عربی زبان کی شہرہ آفاق لغت "المنجد" کا پہلا مکمل اُردو ترجمہ
کئی ہزار جدید عربی الفاظ کے اضافہ کے ساتھ

عربی و اردو

دو رنگہ کمپوزنگ

المنجد

مترجم: عصمت ابوسلیم

مکتبہ دانیال

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بسم اللہ الرحمن الرحیم

المنجد

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عربی زبان کی شہرہ آفاق لغت "المنجد" کا پہلا مکمل اردو ترجمہ
کئی ہزار جدید عربی الفاظ کے اضافہ کے ساتھ

دو رنگہ کمپوزنگ

المنجد

عربی و اردو

مترجم: عصمت ابو سلیم

مکتبہ دانیال
غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
042.7660736

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جملہ حقوق محفوظ ہیں

خوبصورت اور معیاری مطبوعات

ہماری پہچان

محمد ابوبکر صدیق

نے

نئیر اسد پرنٹر لاہور

مکتبہ اقبال



چوک اردو بازار لاہور

7660736

0333,4276640

PHONE 7660736 0333 4276640

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المنجد میں مخففات اور علامات کی فہرست

(ا) مخففات

ھ: علم ھندسۃ (جومیٹری)
ك: علم کیمیاء
ب: فن بناء (تعمیر)
جج: جمع الجمع
ح: علم الحیوان
مو: موسیقی
فلك: علم فلک
ۃ: مفعول بہ
ز: زراعت
فا: اسم فاعل
ط ا: علم طبقات الارض
ت: تجارتی اصطلاح
ع ج: علم الجبر (الجبراء)
مص: مصدر
ف: علم الفیزیاء (طبعیات)
ا ع: اصطلاح عسکری
ص: صناعت
ن: علم نباتات
ع ا: علم اعضاء
مفع: اسم مفعول
حی: علم الحیل (قانونی داؤ، چال)
ط: علم مطبخ
ع ح: علم حساب
مث: مثنّٰی
ف ج: فنون جمیلہ
طب: طب

(ب) علامات

ـَ سے مراد ہے کہ مضارع کے عین کلمہ پر زبر ہے۔ یعنی عین کلمہ مفتوح ہے۔
ـُ سے مراد ہے کہ مضارع کے عین کلمہ پر پیش ہے۔ یعنی عین کلمہ مضموم ہے۔
ـِ سے مراد ہے کہ مضارع کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ یعنی عین کلمہ مکسور ہے۔
ـ سے مراد ہے کہ مضارع کا عین کلمہ مفتوح، مضموم اور مکسور ہے۔
○ سے مراد ہے کہ یہاں سے المنجد کے اگلے اصل لفظ تک الفاظ کے جدید معنے بیان کئے گئے ہیں۔

چند قابل توجہ باتیں

۱۔ عربی لغات میں عام طور پر اردو اور انگریزی کے برعکس مصدری معنے بتانے کے لئے پہلے فعل ماضی، پھر مضارع اور اس کے بعد مصدر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر فعل متعدی ہو تو آخر میں مفعول لایا جاتا ہے بعض الفاظ کے ساتھ صلہ جیسے من، عن، ل، اِلی، فی، علی، فوق، تحت، بین وغیرہ میں سے کوئی صلہ آتا ہے، جس سے معنی یا تو مختلف ہو جاتا ہے یا اس کی توضیح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

۲۔ اس لغات کو معانی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اور ہر مادہ کو مختلف اقسام میں تقسیم کر کے مرتب کیا گیا ہے۔

۳۔ کسی کلمہ کی تلاش مقصود ہو اور وہ مجرد ہو تو اس کے پہلے حرف کے باب میں دیکھیں اور اگر مزید فیہ ہو تو اسے مجرد بنا کر اور اگر پہلا حرف کسی دوسرے لفظ سے بدلا ہوا ہو تو اسے اس کی اصل کی طرف لوٹا کر، پہلے حرف کے باب میں دیکھیں۔

۴۔ دو چند ثلاثی فعل کو مادہ کے اول میں رکھا گیا ہے جب کہ دو چند رباعی فعل کو، اسی قاعدہ کے مطابق جو اس لغات میں اختیار کیا گیا ہے، فعل ثلاثی الاصل کی طرف لوٹایا گیا ہے، جیسے صمصم کو اس کی اصل صمّ کی طرف لوٹایا گیا ہے۔ مَلْمَلَ کا ذکر مادہ مَلّ کے ساتھ کیا گیا ہے اور دَحْرَجَ کو اس کے مادہ دحر میں رکھا گیا ہے۔

۵۔ علامت (ـ) اگر فعل کی جگہ ہو جیسے: اَشْکَلَ الامرُ: اِلتبس (معاملہ کا مبہم ہونا) اور اس کے بعد مثلاً و ــ الکتابَ: قیّدہ بالحرکات

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(تحریر پر حرکات لگانا) ہو تو سمجھا جائے گا کہ و ـــــ الکتاب: دراصل اشکل الکتاب ہے۔ اگر یہ علامات (-) فعل کی جگہ نہ ہو بلکہ کسی اور ترکیب میں آئے، تو دیکھنا چاہئے کہ اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے۔ مثلاً الوقفة: المرة (اسم مرّة) کے بعد ہے و ۔ من الترس: اور لکھا ہے کہ وہ کالوقف ہے یعنی وقف کے مانند ہے۔ لہٰذا معنی کا تعین کرنے کے لئے وقف کا لفظ دیکھنا ہوگا۔ المنجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ الوقف کے معنے بتا کر و ۔ من الترس کا معنی: ما یستدیر بحافته من قرن او حدید و غیر ذلك دیا گیا ہے جس کا معنی "ڈھال کے گرد کا حلقہ جو سینگ یا لوہے وغیرہ کا بنا ہوا ہو" ہے۔ لہٰذا الوقفة من الترس کا معنی بھی وہی ہوگا جو الوقف من الترس کا ہے۔

٦۔ اسی طرح القلیص: الکثیر (بہت) اور و ـــ من المیاہ: المرتفع (ختم ہونے والا پانی) میں و ـــ من المیاہ دراصل القلیص من المیاہ ہے۔

٧۔ کسی فعل کے ساتھ جو کچھ مذکور ہو وہ اس سے مقید نہ سمجھنا چاہئے بلکہ ایسا اکثر بطور مثال بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے راثَ الفرسُ کا معنی گھوڑے کا لید کرنا ہے تو راثَ (لید کرنا) صرف گھوڑے سے مخصوص نہیں بلکہ ہر کھر دار جانور کے لئے بولا جاتا ہے۔

٨۔ اضافی حصوں میں علامات کی تشریح:

فعل کے بعد ہ: کوئی شخص (نصبی حالت میں)

ہ: کوئی چیز (نصبی حالت میں)

ھا: زندہ مخلوق کی مؤنث (نصبی حالت میں)

ھم: لوگوں کا ایک گروہ (نصبی حالت میں)

ہ سے مراد یہ بھی ہے کہ یا تو وہ مفعول بہ ہے یا مفعول فیہ ہے۔

مثال کے طور پر قَتَلَہُ کا معنی ہے کسی شخص کو قتل کرنا (مختصراً: کو قتل کرنا) حَدَّثَہُ: کا معنی ہے: کسی شخص سے بات چیت کرنا (مختصراً: سے بات چیت کرنا)۔ حَدَّثَ ہ ہ/ب: کا معنی ہے کسی شخص کو کچھ بتانا (مختصراً: کو کچھ بتانا) اور حَدَّثَ ہ ہ/ب/من/في: کا معنی کسی شخص کو کوئی بات کسی شخص یا چیز کے بارے میں بتانا (مختصراً: کو کچھ کے بارے میں بتانا)، جب کہ حَدَّثَ ہ عن/في کا معنی ہے کسی شخص سے کسی شخص یا چیز کے بارے میں گفتگو کرنا۔ دَخَلَ ہ کا معنی ہے کسی چیز میں داخل ہونا (مختصراً میں داخل ہونا) ظاہر ہے داخل ہونا سے مراد کسی جگہ میں داخل ہونا ہی ہوگا لہٰذا وہ جگہ کوئی کمرہ، عمارت وغیرہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسجد میں داخل ہوا ہے تو کہا جائے گا دَخَلَ مسجداً اور اگر وہ معرفہ بالسلام ہے تو کہا جائے گا دخل المسجدَ: وہ اس مسجد میں داخل ہوا اس صورت میں ہ مفعول فیہ کی قائم مقام ہوگی۔ اسی طرح ہ: اگر کسی نے زید نامی شخص کو مارا پیٹا ہے تو کہا جائے گا ضَرَبَ زیداً: اس نے زید کو مارا پیٹا۔ (مختصراً: کو مارا پیٹا)۔ بعض افعال دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح ظاہر کیا گیا ہے: اَلْبَسَ ہ ہ: کسی شخص کو کچھ پہنانا (مختصراً: کو کچھ پہنانا) اگر اسے قمیض پہنائی گئی تو کہیں گے اَلْبَسَہُ قمیصاً: کسی شخص نے اس شخص کو قمیص پہنائی۔ اگر زید کو قمیص پہنائی تو کہیں گے اَلْبَسَ زیداً قمیصاً: اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل ماضی اور مضارع بھی مؤنث ہوگا۔ جیسے: وَلَدَتِ الارضُ النباتَ: زمین کا نباتات اگانا۔ ہ کا مفعول بہ ہونے کی مثال: قَطَعَ ہ: کسی چیز کو کاٹنا (مختصراً: کو کاٹنا) معنی بیان کرنے کے لئے عموماً فعل ماضی مطلق کا واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ حسب موقع اس کی جگہ کوئی اور صیغہ استعمال کریں گے تو معنی میں اس کے مطابق تبدیلی آ جائے گی۔ مثلاً آپ کہیں: میں نے دیکھا تو کہا جائے گا: رَأَیْتُ: ہم نے دیکھا: رَأَیْنَا: انہوں نے دیکھا: رَأَوْا: اسی طرح رَأَتْ: اس عورت نے دیکھا۔ رَأَى: اس مرد نے دیکھا۔ تو نے دیکھا: رَأَیْتَ تم نے دیکھا۔ رَأَیْتُم وغیرہ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مقدمہ

(جو المنجد فی اللغۃ کے ۱۷ویں ایڈیشن سے متعلق ہے اور اس کے ۲۳ویں ایڈیشن سے لیا گیا ہے)

المنجد نصف صدی سے طالب علموں اور ادیبوں کا رفیق ہے۔ اس کی تجدید کی جاتی رہی ہے، تاکہ خواص و عوام کے سامنے مثالی عربی ڈکشنری بن جائے۔

اس کا ذخیرہ الفاظ دراصل پادری لویس معلوف الیسوعی کی منجد سے ماخوذ، کیتھولک پریس کا ایک نفیس ورثہ ہے۔ اس میں سینکڑوں الفاظ اور معاصرین کی زبان کے جدید معانی کے علاوہ ہزار سے زائد اہل علم اور علم و معرفت کے مختلف شعبوں کے ماہرین کی اصطلاحات کا اضافہ کیا گیا ہے۔

مزید افادیت کی غرض سے، ہم نے بہت سے قدیم و جدید الفاظ کو علمی تشریح، رائج الوقت تعریف اور آج کل کے انداز بیان سے واضح کیا ہے اور پیچیدہ الفاظ کی ممکن حد تک وضاحت کی ہے۔

مزید برآں، ہم نے 'مادری' زبان کے ذکر میں، جس سے اجنبی الفاظ متعلق ہیں، اسی طرح پوری کوشش کی ہے جس طرح علم کے میدانوں: طب، زراعت، کیمیاء، علم نباتات وغیرہ کی تعیین میں، جس کے بعض الفاظ بطور تخصص و مہارت استعمال ہوتے ہیں۔

اس تجدید کا فیصلہ کرتے وقت، ہمارے پیش نظر زیادہ اہمیت کی حامل یہ سوچ تھی کہ اس عربی ڈکشنری کے استعمال کو آسان بنانے کا طریقہ معلوم کیا جائے، چنانچہ بار بار کے تجربہ اور طویل محنت و جانفشانی کے بعد زبان کی روح اور ڈکشنریوں کی روایات برقرار رکھنے کا طریقہ دریافت کرنے میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ثلاثی اور رباعی اصل کے متعدد معانی ہوتے ہیں، جن میں سے مثال کے طور پر کچھ تو دوسروں سے نکلتے ہیں جیسے مجازی، حقیقی سے اور کوئی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے معنوں میں موازنہ کا پہلو پیدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے ان اصل معانی کی طرف رجوع کے ذریعے ان کی درجہ بندی کی، بعد ازاں، ان مختلف معانی میں سے ہر معنی کے ضمن میں، ان کے مشتقات کو روایتی انداز میں مرتب کیا۔ ہمیں کچھ آسانیاں پیدا کرنے کی بھی توفیق ہوئی، جن کا ذکر ہم نے منجد کے جدید استعمال کی کیفیت کی تشریح میں کیا ہے۔

ہر ''بنیادی لفظ'' کو، خواہ اصل ہے یا مشتق، سرخ رنگ سے طبع کرنے کی غرض محض کتاب کا استعمال آسان بنانا اور قارئین کا وقت بچانا ہے۔ (عربی المنجد میں)

ہماری نگاہ سے یہ بات اوجھل نہیں کہ ہمارا طریقہ بالکل بے عیب نہیں ہوسکتا، تاہم منفعت کی فراوانی کے علاوہ کامیاب جدوجہد کے مقابلہ میں نقطہ آغاز سے قریب تر ضرور ہے۔ اغلب گمان یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل اغلاط سے خالی نہیں ہوگا، لہٰذا ارباب لغت سے درخواست ہے کہ وہ از راہ کرم ہمیں ہماری غلطیوں سے مطلع فرمائیں۔

اس کام میں، محنت اور صبر و تحمل کے سات سال لگے۔ اس میں لغوی، فنی اور پیشہ ورانہ مہارت کے حامل دسیوں، دوستوں اور معاونین نے حصہ لیا ہے۔ لیکن المنجد کے لغوی متن کی تجدید میں زیادہ تر حصہ پروفیسر کرم البستانی، ماہر علم نباتات پادری الیسوعی بولس موتر داور پروفیسر

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عادل انبوبا کا ہے۔ موخرالذکر پروفیسر کئی سال سے ریاضیات اور طبیعیاتی علوم کی تمام فروع میں عربی لغت کے احیاء پر ثابت قدمی سے کام کر رہے ہیں۔

مخفی نہ رہے کہ ان سب نے کسی نہ کسی خاص میدان، تحقیق اور تراجم پر عرب ممالک کے علماء اور ماہرین لسانیات کی تصنیف کردہ لغات سے استفادہ کیا ہے۔

جہاں تک پروفیسر انطون نعمہ کا تعلق ہے، تو انہوں نے خاص طور پر الفاظ کے مَعانی کی درجہ بندی اور ترتیب میں دلچسپی لی۔ ان کا یہ کام مشکلات سے خالی نہ تھا۔

اس طرح، المنجد بالاخر موجودہ شکل کو پہنچی ہم عمل کی اس دستاویز، کلام کی کلید اور علوم کی دولت کو، جو کوئی آسان کام نہیں، قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

بیروت ۱۵ اگست ۱۹۶۰ء

کیتھولک پریس

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

عرض مترجم

جہاں عربی کو یہ فوقیت ملی ہے کہ وہ متعدد ممالک کی مادری زبان ہے، وہاں یہ شرف عظیم بھی اس کے حصے میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اُسے اپنے آخری نبی ﷺ پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کرنے کے لئے منتخب فرمایا۔ قرآن مجید سے پہلے کی تمام وہ زبانیں جن میں صحف سماویہ نازل ہوئے اب کہیں نہیں بولی جاتیں اور نہ ہی وہ صحف اپنی اصل زبان میں دستیاب ہیں۔ صرف ان کے ترجمے ملتے ہیں جب کہ قرآن مجید انہی الفاظ اور اسی ترتیب سے آج بھی موجود ہے۔ جن الفاظ اور جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ﷺ نے اسے امت کے سپرد کیا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم ﷺ کے مابین تقریباً ۶۰۰ سال کا زمانی وقفہ ہے، جو کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی انجیل حیرت انگیز طور پر ناپید ہے اور اس کی جگہ چار انجیلوں نے لے رکھی ہے، جن کے مصنفین متی، یوحنا، لوقا اور مرقس ہیں۔ **المنجد فی الاعلام** میں انجیل کے عنوان کے تحت لکھا ہے: **الانجیل کلمة یونانیة معناها البشارة و الاناجیل مجموعة اعمال المسیح و اقواله و صلت الینا باربع روایات و ضعها متی و یوحنا و هما من الرسل و لوقا و مرقس و هما من تلامیذ المسیح سمیت بالانجیل لأنها أتت للانام ببشری الخلاص عن المسیح الفادی** (انجیل یونانی لفظ ہے، جس کا معنی خوشخبری ہے۔ اناجیل مسیح کے اعمال واقوال کا مجموعہ ہے، جو ہم تک چار روایات کے ذریعے پہنچا، جن کے واضعین متی اور یوحنا آپ کے حواری اور لوقا اور مرقس آپ کے شاگرد تھے۔ اس مجموعہ کو انجیل کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ لوگوں کے پاس نجات دہندہ مسیح کی مدد سے نجات کی خوشخبری لے کر آیا۔

عربی زبان علمی، ادبی، ثقافتی وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے، متعدد خصوصیات اور گوناگوں صلاحیتوں کی حامل ہے اور اس کی دینی حیثیت مسلم ہے۔ اس زبان کی وسعت کا یہ حال ہے کہ آئے دن نت نئی ہونے والی ایجادات، جن کے نام ان کے موجدوں کی طرف سے رکھے جاتے ہیں، ماہرین لسانیات بآسانی انہیں عربی جامہ پہنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیلیفون کے لئے عربی میں **هاتف**، موبائل کے لئے (جو دراصل موبائل ٹیلیفون ہے) **هاتف متحرك** یا **هاتف جوّال** یا **هاتف نقال**، کمپیوٹر کے لئے **العقل الالکترونی**، انسٹ (inset) کے لئے جو بڑی فوٹو کے کسی کونہ میں چھوٹی تصویر کے معنی میں ہے، **اطار** ہے۔ جب کہ پہلے سے یہ لفظ (اطار) فریم، عینک کے فریم، پہیے کے ٹائر اور پہیے اور پیپے کے گرد کڑے کے معنوں میں مستعمل ہے۔ ہر قسم کی گاڑیوں کے پہیوں کے ٹیوب کو **اطار داخلی** کہا جاتا ہے۔ اور پہیے کے رِم (Rim) کے لئے **اطارة** کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ آج کل میڈیا (Media) عربی میں **وسائل الاعلام** کے معنی میں ہے۔ **وزیر الإعلام** وزیر اطلاعات کے معنی میں اور اس سے صفت کا صیغہ اعلامی ہے۔ جیسے **الحرب الاعلامیة** یعنی میڈیا جنگ (Media War) میں۔ ان دنوں دہشت گردی کا بڑا چرچا ہے۔ عربی میں اس کے لئے **ارهاب** کا لفظ ہے اور دہشت گرد (اسم) اور دہشت گردانہ (صفت) کے لئے **ارهابی** جمع **ارهابیون**۔ دہشت گردی کی کارروائیوں کے لئے **العملیات الارهابیة** جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو **محاربة الارهاب** یا **الحرب علی الارهاب** کہا جاتا ہے۔ عربی میں انگریزی وغیرہ کے الفاظ کا استعمال بہت کم ہے۔ اس کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

برعکس ہمارے ہاں عموماً انگریزی لفظ کو من وعن اپنا لیا جاتا ہے۔ مثلاً ٹیلیفون، سٹیشن، موبائل، ریلوے سٹیشن وغیرہ کا استعمال عام ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں برطانوی راج کے آخری ایام میں تو کالجوں کے طلبہ اس قسم کی زبان بولنے لگے تھے، جیسے اس مثال سے ظاہر ہے: ''میں اس matter میں آپ کے father کی opinion کے entirely against ہوں۔ گذشتہ چند سالوں کے دوران تو ایک اور گل کھلا۔ لاہور ریلوے سٹیشن کی عمارت کی پیشانی پر انگریزی میں جو بورڈ آویزاں کیا گیا، اس پر تحریر ہے Lahore Railway Station جب کہ اسی عبارت کا اردو میں اسٹیشن کے کسی اور نمایاں مقام پر بورڈ لگانے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کی گئی، جو قومی بے حسی اور ذہنی غلامی کی افسوسناک مثال ہے۔

مزید برآں حکومت کی طرف سے بصرف زر کثیر، اکل وشرب کے بازار آراستہ کئے گئے ہیں، جن کا نام Food Streets رکھا گیا ہے۔ اس سے برسر اقتدار طبقہ کے غلط قبلہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تعلیم کی فراہمی حکومت کی ایک اہم ذمہ داری ہے، لیکن تعلیمی اداروں کو نجی ملکیت میں دیا جا رہا ہے جس سے حصول تعلیم از حد گراں ہو جائے گا اور غریبوں کے بچے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ شرح خواندگی زبردست حد تک گر جائے گی اور ملک پسماندہ تر ہو جائے گا۔ ایسے اقدامات ملک عزیز کے لئے سخت ضرر رساں ہیں۔

ہمارے دینی مدارس کا نصاب تعلیم اصلاح طلب ہے، ان سے فارغ التحصیل ہونے والے قابل رشک قابلیت کے حامل نہیں ہوتے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے، عرب ممالک سے ہمارے تعلقات صرف دینی نوعیت کے نہیں ہونے چاہئیں بلکہ ضروری ہے کہ یہ تعلقات سیاسی، تجارتی، سائنسی، فوجی وغیرہ تمام میدانوں میں استوار ہوں۔ عرب ممالک سے روابط بڑھانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ جس کے لئے عربی میں مہارت ہونی چاہئے۔ خصوصاً عصر حاضر میں جدید عربی سے واقفیت ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر خاکسار نے اس لغات میں، ناشرین کی اجازت سے، ہنس ویئر Hans wehr کی عربی انگریزی ڈکشنری سے ایک بڑے ذخیرۂ الفاظ کا ترجمہ کر کے اضافہ کیا ہے۔ یہ ڈکشنری لکھی جانے والی عصری عربی کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ امید ہے یہ سعی قارئین کے عصر حاضر کے جدید تقاضوں کو بڑی حد تک پورا کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوگی۔

عصمت ابوسلیم

سابق مترجم، عراقی سفارت خانہ، اسلام آباد

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ثلاثی مزید فیہ افعال کے اہم اغراض

فَعَّلَ:

۱۔ تعدیۃ: جیسے فَرَّحْتُهُ: میں نے اسے خوش کیا۔

۲۔ تکثیر: جیسے قَطَّعْتُ الحبلَ: میں نے رسی کے کئی ٹکڑے کئے۔

۳۔ نسبت: جیسے کَفَّرتُهُ: میں نے اس کی کفر کی طرف نسبت کی۔

۴۔ سلب: جیسے قَشَّرْتُ العودَ: میں نے لکڑی کی چھال اتاری۔

۵۔ اسم سے فعل بنانا: جیسے خَیَّمَ القومُ: لوگوں نے خیمے نصب کئے۔

فَاعَلَ:

۱۔ مشارکت: (ایک کا دوسرے کے ساتھ وہی کچھ کرنا جو دوسرا اس سے کرے اور یوں ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی: جیسے ضارب زیدٌ عمرا: زید اور عمر باہم لڑے۔

۲۔ تکثیر: جیسے ضَاعَفَہ: کو دگنا کرنا، دوچند کرنا۔

۳۔ بمعنی اَفْعَلَ: عافاك اللّٰه: اللہ نے اسے صحت وعافیت دی۔ باعَدْتُه: میں نے اسے دور کر دیا۔

۴۔ فَاعَلَ: کا ثلاثی مجرد کے معنی میں ہونا: سَافَرَ زیدٌ: زید سفر کے لئے روانہ ہوا۔ قَاتَلَهُ اللّٰهُ: اللہ نے اس پر لعنت کی۔ بارَكَ اللّٰهُ فیه: اللہ نے اسے بابرکت بنایا۔

اَفْعَلَ:

۱۔ تعدیۃ: اَکْرَمْتُ الرسولَ: میں نے قاصد کی تعظیم۔

۲۔ دخول: اَمْسَی ابنُ السبیلِ: مسافر شام میں داخل ہوا۔ اَصْبَحَ: وہ صبح میں داخل ہوا۔

۳۔ کسی جگہ کا قصد کرنا: جیسے أَحْجَزَ: اس نے حجاز کا قصد کیا۔ أَعْرَقَ: اس نے عراق کا قصد کیا۔

۴۔ جس سے فعل مشتق ہو اس کا فاعل میں پایا جانا: اَثْمَرَتِ الشجرۃُ: درخت پھل دار ہوا (ثمر بمعنی پھل)

۵۔ مبالغہ: جیسے اَشْغَلْتُهُ: میں نے اسے بہت مشغول کیا۔

۶۔ وجدان: جیسے اعظمته: میں نے اسے عظیم پایا، اَحْمَدْتُهُ: میں نے اسے محمود پایا۔ اَکْبَرْتُهُ: میں نے اسے بڑا پایا۔

۷۔ صیرورت: جیسے أَقْفَرَ البلدُ: شہر اجاڑ ہو گیا۔

۸۔ عرض: اَبَاعَ العبدَ: اس نے غلام کو بیچنے کے لئے پیش کیا۔

۹۔ سلب: جیسے أَشْفَی المریضُ: مریض کی صحتیابی جاتی رہی۔

۱۰۔ حینونۃ: جیسے أَحْصَدَ الزرعُ: فصل کی کٹائی کا وقت آ گیا۔

۱۱۔ کبھی أَفْعَلَ کا ثلاثی مجرد کے معنی میں آنا، جیسے: اَقَلْتُ البَیْعَ: میں نے فروخت منسوخ کر دی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تفعّل:

۱۔ مطاوعتِ فعّلَ: كَسَّرْتُ الزجاجَ فتكسَّرَ: میں نے شیشہ توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔

۲۔ تکلّف: جیسے تَشجَّعَ عمرو: عمر نے خود کو بہادر ظاہر کیا (وہ بہادر بنا)

۳۔ اتّخاذ: جیسے تَبَنَّيْتُ يوسفَ: میں نے یوسف کو بیٹا بنالیا۔

۴۔ تجنّب: جیسے تَهَجَّدَ: وہ رات کو جاگتا رہا (سونے سے پرہیز کیا) تَأَثَّمَ: وہ برائی سے بچا۔ تَذَمَّمَ: اس نے مذمت چھوڑ دی۔

۵۔ صیرورت: جیسے تَأَيَّمَتِ المرأۃُ: عورت بیوہ ہوگئی۔

۶۔ تدریج: تَجَرَّعَ: اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے پیا۔

۷۔ طلب: جیسے تَعَجَّلَ الشيَّ: وہ چیز کی جلدی کا طالب ہوا۔ تَبَيَّنَهُ: وہ وضاحت کا خواہاں ہوا۔

۸۔ اتخاذ: جیسے تَوَسَّدَ الحجرَ: اس نے پتھر کو تکیہ بنایا۔

۹۔ انتساب: جیسے تَبَدَّى: وہ بادیہ سے منسوب ہوا، بدوی ہوگیا۔

تَفَاعَلَ:

۱۔ مشارکت: تَصَالَحَ القومُ: لوگوں نے ایک دوسرے سے صلح کی۔ تَشَارَكَ الرجُلانِ: ان دو مردوں نے ایک دوسرے سے شراکت۔

۲۔ مطاوعتِ فاعَلَ: جیسے باعدتُهُ فتَبَاعَدَ: میں نے اسے دور کیا تو وہ دور ہوگیا۔

۳۔ تخییل: جیسے تَمَارَضْتُ: میں نے خود کو بیمار ظاہر کیا۔

۴۔ تدریج: جیسے تَوَارَدَ القومُ: لوگ ایک ایک کر کے آئے۔

۵۔ مجرّد کے معنی میں ہونا: جیسے تَعَالَى و تَسَامَى: اللہ بلند و بالا ہے (عَلَى اور سما کے بھی یہی معنی ہیں)

اِفْتَعَلَ:

۱۔ مطاوعتِ فَعَلَ: جیسے جَمَعْتُهُ فَاجْتَمَعَ: میں نے اسے اکٹھا کیا تو وہ اکٹھا ہوگیا۔

۲۔ اسم سے فعل بنانا: جیسے اِخْتَبَزَ: اس نے روٹی پکائی (خبز بمعنی روٹی)

۳۔ مبالغہ: جیسے اِكْتَسَبَ: اس نے کوشش کر کے کمایا۔

۴۔ طلب: جیسے اِكْتَدَّ فلانًا: کسی سے محنت کا طالب ہونا۔

۵۔ فَعَلَ کے معنی میں ہونا: جیسے اِجْتَذَبَ: اس نے کھینچا (جَذَبَ کا بھی یہی معنی ہے)

۶۔ تَفَاعَلَ کے معنی میں ہونا، جیسے اِخْتَصَمَ بمعنی تَخَاصَمَ: باہم جھگڑنا۔

اِنْفَعَلَ:

۱۔ مطاوعتِ فَعَلَ: كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ: میں نے اسے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔

۲۔ مطاوعتِ اَفْعَلَ (اس کا استعمال بہت کم ہے): جیسے اَزْعَجَهُ فَانْزَعَجَ: اس نے اسے پریشان کیا تو وہ پریشان ہوگیا۔ اَصَارَهُ فَانْصَارَ: اس نے اسے جھکایا تو وہ جھک گیا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(باب انفعال ہمیشہ فعل لازم ہوتا ہے اور ایسے معانی کے لئے آتا ہے جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہو)

إِفْعَلَّ:

۱۔ صفت میں داخل ہونے پر دلالت: جیسے إِحْمَرَّ البُسر: گدر کھجوروں میں سرخی آ گئی۔

۲۔ مبالغہ: جیسے إِسْوَدَّ الليلُ: رات کی تاریکی بڑھ گئی (یہ باب اکثر رنگوں اور عیوب کے معنوں میں آتا ہے)

إِسْتَفْعَلَ:

۱۔ طلب: جیسے إِسْتَغْفَرَ: اس نے مغفرت طلب کی۔

۲۔ وجدان: جیسے إِسْتَعْظَمَ الامرَ و إِسْتَحْسَنَهُ: اس نے معاملہ کو بڑا اور اچھا پایا۔

۳۔ تحوّل: جیسے إِسْتَحْجَرَ الطينُ: مٹی پتھر بن گئی۔

۴۔ تکلّف: جیسے إِسْتَجْرَأَ: اس نے جرأت دکھلائی۔

۵۔ مطاوعت: جیسے أَرَاحَهُ فَاسْتَرَاحَ: اس نے اسے آرام پہنچایا تو اس نے آرام پایا۔

۶۔ موافقت مجرّد: جیسے إِسْتَقَرَّ بمعنی قَرَّ: ٹھہرنا۔

إِفْعَوْعَلَ:

۱۔ مبالغہ: جیسے إِحْقَوْقَفَ: وہ بہت لمبا اور ٹیڑھا ہو گیا۔ إِحْدَوْدَبَ: وہ بہت کبڑا ہو گیا۔

۲۔ مجرّد کے معنی میں ہونا: جیسے إِحْلَوْلَى التمرُ: کھجور میٹھی ہو گئی۔

إِفْعَوَّلَ:

۱۔ مبالغہ: جیسے إِجْلَوَّذَ: وہ بہت تیز دوڑا۔ إِحْمَلَّ: وہ بتدریج بہت سرخ ہو گیا۔ (یہ باب رنگوں اور عیوب سے مخصوص ہے)

تَفَعْلَلَ:

مطاوعت زَعْزَعَ: جیسے زَعْزَعْتُهُ فَتَزَعْزَعَ: میں نے اسے سخت حرکت دی تو وہ ہل گیا۔ (زَعزع رباعی مجرّد ہے اور تَزَعْزَعَ رباعی مزید فیہ)

إِفْعَلَلَّ و إِفْعَنْلَلَ:

یہ دونوں فعل مبالغہ کا معنی دیتے ہیں، جیسے إِحْرَنْجَمَتِ الابلُ: اونٹ ڈھیر کی صورت میں اکٹھے ہو گئے۔ إِقْشَعَرَّ جِلْدُہ: وہ کانپ کر سمٹ گیا۔

(علماء صرف کے نزدیک ان کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں، لیکن انہیں طوالت کے خوف سے نظر انداز کر دیا گیا ہے، ابواب مزید فیہ کی اکثریت سماعی ہے۔ لہٰذا ہر مجرد سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مدار کتب لغت پر ہے)۔

مشتقات:

فعل سے مشتق اسماء مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مصدر (۲) اسم مرّہ (۳) اسم نوع (۴) اسم مکان (۵) اسم زمان (۶) اسم آلہ (۷) اسم فاعل (۸) اسم مفعول (۹) صفت مشبہ (۱۰) افعل التفضیل (۱۱) مبالغہ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مصدر :

ثلاثی مجرّد کے مصادر قیاسی نہیں۔ ان کے بہت سے اوزان ہیں اوران کا مدار سماع پر ہے لیکن مشہور حسب ذیل ہیں:

۱۔ پیشہ کے معنوں پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فِعَالَة، جیسے زراعة، تجارة حیاکة

۲۔ امتناع کے معنوں پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فِعال ہے جیسے اِباء، ثِراد، جماح۔

۳۔ اضطراب کے معنی پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فعَلان ہے، جیسے غلَیان، جوَلان، خفَقان۔

۴۔ امراض پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فُعَال ہے، جیسے: صُدَاع: زکام، دُوَام

۵۔ سیر پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فعِیل ہے، جیسے: رَحِیل، ذمِیل۔

۶۔ آواز پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فُعَال اور فعیل ہے، جیسے: صُرَاح، زئِیر۔

۷۔ رنگوں پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فُعْلَة ہے جیسے: حُمرَة، زُرْقَة، خُضرَة۔ اگر ان پر دلالت نہ ہو تو عموماً:

۱۔ فعُلَ کا مصدر فُعُولَة یا فَعَالَة کے وزن پر آتا ہے جیسے سُهُولَة، نبَاهَة، فصَاحَة۔

۲۔ فعل لازم (فعِلَ) کا مصدر فعَلَ آتا ہے، جیسے: فرَح، عطَش، بلَج۔

۳۔ فعَلَ لازم کا مصدر فُعُول پر آتا ہے جیسے: قُعُود، خرُوج، نهُوض۔

۴۔ فعِلَ اور فعَلَ سے متعدی کا مصدر فعْلٌ آتا ہے جیسے فهْم، نصْر۔

غیر ثلاثی کے مصادر

ثلاثی مجرد کے علاوہ سارے مصادر قیاسی ہیں۔

۱۔ فعّلَ کا مصدر تفعِیل: جیسے فرّحَ سے تفرِیح کبھی تفعِلَة کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے وسّعَ سے توسِعَه، قدّمَ سے تقدِمة: اگر ناقص (مہموز اللام) ہو تو اکثر تفعِلَة آتا ہے اور تفعِیل بہت کم آتا ہے۔ جیسے: نبّأَ سے تنبِئَة، وطّأَ سے توطِئَة اور هنّأَ سے تهنِئَة اگر معتل اللام ہو تو صرف تفعِلَة آتا ہے، جیسے: حلّی سے تحلِیَة، زکّی سے تزکِیَة، اجوف سے فعّل کا مصدر صرف تفعِیل آتا ہے، جیسے: جوّفَ سے تجوِیف، قوّمَ سے تقوِیم۔

فاعَلَ کا مصدر فِعَال اور مُفَاعَلة آتا ہے، جیسے: قاتَلَ سے قِتَال و مُقَاتَلَة تاہم جس فعل کا فاکلمہ یا ہو تو مصدر مُفَاعَلة: آتا ہے، جیسے: یاسَرَ سے میاسَرَة، یامَنَ سے مُیامَنَة، یاوَمَ سے مُیاوَمَة اور یِوَام شاذ ہے۔

افْعَلَ کا مصدر إِفْعَال ہے، جیسے: أَكْرَمَ سے إِكْرَام، اگر عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو منتقل کر کے الف سے بدل دیتے ہیں، دو الف کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، جیسے أمَاتَ سے إِمَاتَة، أغَاثَ سے إِغَاثَة اور أشَارَ سے إِشارَة ہیں۔

تفعَّلَ کا مصدر تفعُّل ہے، جیسے تقَدَّمَ سے تقدُّم

جب لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کے آخری الف کو یا میں بدل کر ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے: تأنّی سے تأنّی۔

تفاعَلَ کا مصدر تفاعُل ہے، جیسے تقَادَمَ سے تقادُم

جب لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کے آخری الف کو یا سے بدل کر اس کے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے تغَاضَی سے تغَاضِي۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

إِفْتَعَلَ کا مصدر إِفْتِعَال ہے، جیسے: إِشْتَرَكَ سے إِشْتِرَاك۔
إِفْعَلَّ کا مصدر إِفْعِلَال ہے، جیسے إِحْمَرَّ سے إِحْمِرَار۔
إِنْفَعَلَ کا مصدر إِنْفِعَال ہے جیسے: إِنْطَلَقَ سے إِنْطِلَاق۔
إِسْتَفْعَلَ کا مصدر إِسْتِفْعَال ہے، جیسے: إِسْتَخْرَجَ سے إِسْتِخْرَاج۔
إِسْتَفْعَلَ کا عین کلمہ حرف عِلّت ہو، تو اسے الف سے بدل کر حذف کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں تاء بڑھا دیتے ہیں، جیسے: إِسْتِقَامَ سے إستقامة۔
إِفْعَوْعَلَ کا مصدر إِفْعِيعَال ہے، جیسے: إِحْدَوْدَبَ سے إِحْدِيْدَاب۔
فَعْلَلَ کا مصدر فَعْلَلَة اور فِعْلَال ہے۔ جیسے: دَحْرَجَ سے دَحْرَجَة و دِحْرَاج۔ دوسرا وزن صرف مضاعف ہونے کی صورت میں قیاسی ہے، ورنہ سماعی، جیسے وَسْوَسَ سے وَسْوَسَة اور وِسْوَاس۔
تَفَعْلَلَ کا مصدر تَفَعْلُل ہے، جیسے: تَدَحْرَجَ سے تَدَحْرُج۔
إِفْعَنْلَلَ کا مصدر إِفْعِنْلَال ہے، جیسے: إِحْرَنْجَمَ سے إِحْرِنْجَام۔
إِفْعَلَلَّ کا مصدر إِفْعِلَّال ہے، جیسے: إِقْشَعَرَّ سے إِقْشِعْرَار
فعل مجہول کے لئے کوئی خاص وزن نہیں، فعل معروف کا مصدر اس کا کام دیتا ہے، جیسے: ضُرِبَ سے ضَرْبًا۔

مصدر میمی

مصدر میمی ثلاثی مجرد سے مَفْعَل کے وزن پر آتا ہے، جیسے: مَنْظَر، مَضْرَب۔ مَرْمَی اس قاعدے سے یہ چھ الفاظ مستثنی ہیں: اَلْمَجِیْ، الْمَرْجِع، المَسِير، الْمَصِير، اَلْمَشِيب۔
مثال واوی سے جس کا عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، تو مَفْعِل کے وزن پر آتا ہے، جیسے: مَوْعِد، مَوْجِل جبکہ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر، علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا کر، جیسے مُنْحدَر، مُصْطَبَر، مُزْدَحَم۔

اسم مرہ و اسم نوع

المرّۃ وہ مصدر ہے جو فعل کے ایک مرتبہ واقع ہونے کو ظاہر کرے، جبکہ اسم نوع وہ مصدر ہے جس سے فعل کی ہیئت اور نوع معلوم ہو۔ ثلاثی مجرد سے اسم مرة فَعْلَة کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضربتُ ضَرْبَةً، اخذتُ اخذةً، مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اس کے مصدر کے آخر میں ''ۃ'' کے اضافہ کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے اِلتفتُ التفاتةً و انطلقتُ الطلاقةً اگر مصدر ثلاثی وغیرہ کے آخر میں 'ۃ' ہو تو اسم مرة لانے کی صورت میں کسی ایسی چیز کا لانا ضروری ہے جس سے وحدت ظاہر ہو، جیسے ضربتُه ضربةً واحدةً قاتلتُه مقاتلةً لاغير وما التفتُّ اليه الا التفاتةً و اجبتُه اجابة فقط۔
ثلاثی مجرد سے اسم نوع کا وزن فِعْلَةً کے وزن پر آتا ہے، جیسے وقفَ وِقْفَةَ الأسدِ مشى مِشْيَةَ المحتال۔ غیر ثلاثی کے علاوہ، دوسرے ابواب سے اسم مرة کے وزن پر جیسے حسن الانطاقة، قبيح المعاشرة۔

اسم مکان و اسم زمان

اسم مکان وہ ہے جس سے فعل کے واقع ہونے کی جگہ ظاہر ہو اور اسم زمان وہ ہے جو فعل کے وقوع ہونے کا وقت بتلائے۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اسم مکان اور اسم زمان ثلاثی مجرد سے مَفْعَل کے وزن پر آتے ہیں، بشرطیکہ مضارع کا عین کلمہ مضموم یا مفتوح ہو، جیسے مَطْبَخ، مَذْبَح، لیکن اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو تو مَفْعِل کے وزن پر، جیسے: مَجْلِس، مَنْزِل ۔اس قاعدہ سے یہ دس الفاظ مستثنیٰ ہیں جو عین کی کسرہ سے آئے ہیں حالانکہ ان کے مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے: المَسْجِد، المَشْرِق، المَغْرِب، المَطْلِع، المَجْزِر، المَرْفِق، المَسْكِن، المَنْسِك، المَنْبِت، المَسْقِط

مثال سے اسم زمان ومکان ہمیشہ مَفْعِل کے وزن پر آتا ہے، جیسے: مَوْعِد، مَوْجِل، جبکہ ناقص سے ہمیشہ مَفْعَل کے وزن پر، جیسے: مَطْوَى، مَرْمَى۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مصدر میمی کی طرح آتا ہے جیسے أَخْدَعَ سے المُخْدَع اور أَدْخَلَ سے المُدْخَل۔

یہاں یہ جاننا چاہئے کہ کسی جگہ میں کسی چیز کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے مَفْعَلَة کا صیغہ مقرر ہے۔ یہ وزن ثلاثی مجرد اور مزید فیہ سے قیاسی ہے، جبکہ بعض کے نزدیک بکثرت آتا ہے، مگر قیاسی نہیں۔ جیسے: مَأْبَلَة (جہاں اونٹوں کی کثرت ہو)، مَفْعَاة (وہ جگہ سانپوں کی بہتات ہو) مَسْبَعَة (وہ جگہ جہاں درندے بہت ہوں)۔

اسم آلة

یہ کام کرنے کے آلہ یا اوزار کا نام ہے اور مشتق ہوتا ہے اور صرف ثلاثی مجرد متعدی سے بنتا ہے۔ اس قاعدہ سے مِصْفَاة، مِرْقَاة اور مِزْمَار مستثنیٰ ہیں کیونکہ یہ صَفَا، رَقِيَ اور زَمَرَ سے ماخوذ ہیں اور یہ تینوں فعل لازم ہیں۔ اسم آلة کے مندرجہ ذیل تین وزن ہیں

۱۔ مِفْعَل: جیسے مِبْرَد۔

۲۔ مِفْعَال: جیسے مِفْتَاح۔

۳۔ مِفْعَلَة: جیسے مِكْنَسَة۔

یہ اوزان بھی قیاسی نہیں۔ قاعدے کے خلاف الفاظ حسب ذیل ہیں۔ مُنْخُل، مُدْهُن، مُكْحُلَة، مُدُق، مُسْعُط، مَنَارَة، مُشْط۔ یہ الفاظ اسماء جامدہ کے مانند ہیں اور فعل سے اشتقاق کے بغیر ہیں۔ جو اسم آلة فعل سے مشتق نہ ہو، اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں۔ یہ بہت سے مختلف اوزان پر آتے ہیں جیسے قَدُوم، سِكِّين، فَأْس۔

اسم فاعل و اسم مفعول

اسم فاعل وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل واقع ہو۔ یہ ثلاثی مجرد سے فاعِل کے وزن پر آتا ہے، جیسے: ناصِر، ظالِم، قائِم۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ مضارع معروف کے وزن پر علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگانے اور ماقبل آخر کو کسرہ دینے سے بنتا ہے، جیسے: مُكْرِم، مُتَقَدِّم، مُدَحْرِج۔

اسم مفعول وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، یہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے: مَضْرُوب، مَاخوذ۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگانے اور ماقبل آخر کو مفتوح کرنے سے بنتا ہے۔ جیسے: يُجَرِّدُ سے مُجَرَّد، يَسْتَخْرِجُ سے مُسْتَخْرَج۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تنبیہ: قیاس کا تقاضا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں سے ہر ایک اپنے فعل سے اخذ کیا جائے۔ فعل خواہ مجرد ہو خواہ مزید فیہ، لیکن کچھ الفاظ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں جیسے اَمْلَحَ سے ماحِل، اَیْفَعَ سے یافع، اعشب سے عاشب، اَحَبَّهُ سے محبوب، أجَنَّه سے مجنون اور أَحَمَّهُ سے مَحْمُوم، أَزْكَمَهُ سے مَزْكُوم، أَسَلَّهُ سے مَسْلُول، حالانکہ اصل میں کہنا چاہئے تھا: مُمْحِل و مُسَلّ (اس سے درمیانی الفاظ کا قیاس کرلیں)۔

۲۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم مفعول، مصدر میمی، اسم مکان اور اسم زمان ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ امتیاز معنوی قرائن سے ہوتا ہے۔

صفت مشبّہ

صفت مشبہ وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی حالت کا اثبات پایا جائے اور زمانہ کی قید سے آزاد ہو۔ بخلاف اسم فاعل جس میں زمانہ کی قید پائی جاتی ہے۔ ثلاثی سے اس کے اوزان سماعی ہیں، جیسے: حَسَن، کَرِیم، لَیِّن، سَهْل، صَعْب اگر فعل لون یا عیب یا حلیہ پر دلالت کرتا ہو تو اس کے لئے صفت مشبہ کا وزن اَفْعَل ہے، جیسے أَسْوَد، اَعْرَج، أَبْلَح اور ثلاثی مجرّد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے اور صرف ابواب لازمہ سے، جیسے: مُطْمَئِن، مُسْتَقِیم

اسم تفضیل:

اسم تفضیل وہ ہے جو بہ نسبت دوسرے موصوف کی صفت کی زیادتی پر دلالت کرے۔ اس کو افعل التفضیل بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ صفت مشبہ کا ایک وزن اَفْعَل بھی ہے۔ کسی فعل سے بنانے کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں:

۱۔ فعل ثلاثی ہو، رباعی وغیرہ سے نہ ہو۔

۲۔ صفت کا صیغہ افعل کے وزن پر نہ آتا ہو، یعنی لون، عیب یا حلیہ پر دلالت نہ کرتا ہو۔ اگر ایسا ہو تو اسم تفضیل افعل کے وزن پر آسکتا ہے، جیسے: هذا أَقْبَحُ من ذلك، أَشْنَعُ منه، کیونکہ ان کے صفت کے صیغے قبیح اور شنیع ہیں۔

۳۔ منصرف تام ہو، چنانچہ بئس سے ابأس نہیں کہا جاتا اور کان سے اکوَن نہیں کہتے۔

۴۔ لازمی طور پر منفی نہ ہو، جیسے: ماعاج بالدواء اس نے دوا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا) یہ کلمہ ہمیشہ منفی استعمال ہوتا ہے۔ یا عارضی طور پر جیسے ماعلم زیدٌ (زید نے نہ جانا)۔

۵۔ مفاضلة کے لئے موزوں ہونا، چنانچہ فنی سے افنی اور ماتَ سے اموتَ نہیں کہا جاتا ہے۔

۶۔ معروف ہو۔

بعض الفاظ قاعدہ کے خلاف مجہول اور ابواب غیر ثلاثی سے آتے ہیں۔ جیسے مثلاً العود احمد میں احمد حُمِدَ سے اور حاتم اعطی من عَمرو میں اعطی سے اور هذا السِفر أُخْصر من ذاك میں اختُصِر سے۔

کبھی افعل التفضیل فعل کے بغیر آتا ہے جیسے ما بالبادیة أَنْوَأُ منه بمعنی اعلم بالانواء ہے۔ انوأ نوء سے ماخوذ ہے جس کے معنی پچھتر کے ہیں۔

خیر اور شر دراصل اَخْیَر اور أَشَرّ ہیں کثرت استعمال کی بنا پر دونوں سے ہمزے ساقط ہو گئے۔ کبھی اصل کے لحاظ سے ہمزہ کے ساتھ بھی آتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے أخیر و أشرّ۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وہ ابواب یا وہ مادے جن سے اسم تفضیل کا صیغہ اَفْعَلُ کے وزن پر نہیں آ سکتا ان سے اسم تفضیل کے معنی کو ظاہر کرنے کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اشد یا اکثر یا انہی جیسے الفاظ کے بعد اس باب کا مصدر منصوب استعمال کرتے ہیں جیسے اشدُّ سواداً، أشد استخراجا۔

اوزن مبالغة:

مبالغہ وہ ہے جو موصوف کی صفت کی زیادتی ظاہر کرے، مبالغہ کے مشہور تر وزن ۱۵ ہیں اور یہ ہیں:

۱۔	فَعَّال	جیسے	عَلَّام و نَصَّار	۹۔	فَعُول	جیسے	کَذُوب، وَدُود
۲۔	فَعَّالة	جیسے	عَلَّامَة، فَهَّامَة	۱۰۔	فاعِلَة	جیسے	راوية
۳۔	مِفْعَال	جیسے	مِكْسال، مِقْدام	۱۱۔	فُعَل	جیسے	غُفَل
۴۔	فِعِّيل	جیسے	سِكِّير، صِدِّيق	۱۲۔	فَعُولَة	جیسے	فَرُوقة
۵۔	مِفْعِيل	جیسے	مِسْكِين، مِعْطِير	۱۳۔	مِفْعَل	جیسے	مِحْرَب
۶۔	فُعَلَة	جیسے	ضُحَكَة، ضُجُعَة	۱۴۔	فَاعُول	جیسے	فَارُوق
۷۔	فَعِل	جیسے	شَرِه، حَذِر	۱۵۔	فُعَّال	جیسے	كُبَّار
۸۔	فَعِيل	جیسے	رَحِيم، عظيم				

مبالغہ کے تمام اوزان سماعی ہیں اور صرف ثلاثی مجرد سے بنتے ہیں۔ خلاف قاعدہ اوزان مبالغہ درّاك، مِعطاء، مِهْوان، مِحْسان، مِتْلاف، مِمْلاق اور مِخْلاف جو بالترتیب أَدْرَك، أَعْطى، اَهَانَ، اَحْسَنَ، اَتْلَفَ، أَمْلَقَ و أَخْلَفَ سے بنائے گئے ہیں۔ اور سَمِيع و نَذِير و زَهُوق ہیں جو بالترتیب اَسْمع، اَنْذَرَ و اَزْهَقَ سے بنے ہیں۔ آپ کے علم میں آنا چاہئے کہ بعض اوزان مبالغہ کے آخر میں تاء تاء تانیث نہیں ہوتی بلکہ مبالغہ کے معنی میں ہوتی ہے جیسے راویۃ میں یا مبالغہ میں زور ظاہر کرنے کے لئے ہوتی ہے جیسے مثلاً عَلَّامَة اور فَهَّامَة میں۔

۲۔ جب فعیل فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر اور مؤنث میں فرق کیا جاتا ہے، خواہ موصوف ساتھ ہو یا نہ ہو جیسے رجل نصير و امرأة نصيرة و جاء نصير و نصيرة میں۔

۳۔ اگر فعیل مفعول کے معنی میں ہو اور موصوف بھی مذکور ہو تو مذکر و مونث یکساں ہوتے ہیں جیسے زيد قتيل و اتت المرأة جريح میں اور موصوف مذکور نہ ہو تو مذکر اور مؤنث میں فرق کیا جاتا ہے جیسے: جاء حبيب و حبيبة میں۔

۴۔ اگر فعول فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر و مونث یکساں ہوتے ہیں یعنی مذکر لائے جاتے ہیں جیسے يوحنا البتول و مريم البتول میں (بتول جو شادی نہ کرے کے معنی میں ہے، حضرت مریمؑ اور حضرت فاطمہؓ کے لئے بتول کا لفظ لقب کے طور پر ہے) موصوف مذکور نہ ہو تو فرق کیا جاتا ہے جیسے جاءَ بتول و بتولة اگر یہ لفظ مفعول کے معنی میں ہو اور موصوف مذکور ہو یا نہ ہو تو مذکر و مونث میں فرق کیا جاتا ہے جیسے هذا رسول و تلك رسولة و جاء رسول و رسولة میں (یعنی یہ قاصد (بمعنی مُرْسَل) ہے وہ قاصدہ ہے۔ قاصد اور قاصدہ آئے۔

موصوف مذکر و مونث

مذکر اسم میں کسی علامت کی ضرورت نہیں جو اس کے مذکر ہونے پر دلالت کرے۔ لیکن مونث کی تین علامتیں ہیں جیسے تا جیسے نعمة، قدرة

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(۲) الف مقصورہ، جیسے غُذری و فُضْلٰی (۳) الف ممدودہ جیسے: سوداء، بیداء یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں زائد ہوتی ہیں۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہو وہ مونث ہے، لیکن مردوں کے نام وہ مذکر ہی رہتے ہیں، خواہ ان کے ناموں کے آخر میں ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہو جیسے نخلة، ارطی، خضرا جو مردوں کے نام ہیں، مؤنث لفظی وہ ہے جس میں مؤنث کی علامت ہو، جیسا کہ اوپر بتایا جاچکا ہے۔

مؤنث معنوی وہ ہے جو مؤنث پر دلالت کرے اور اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو۔ جن اسماء کو مونث معنوی قرار دیا گیا ہے، چار ہیں۔

۱۔ عورتوں کے نام: جیسے: مریم، زینب

۲۔ وہ نام جو عورتوں سے مختص ہوں جیسے: اخت، اُمّ

۳۔ ملکوں، شہروں، قبیلوں کے نام جیسے: شام، مصر، قریش

۴۔ ایسے اعضاء کے نام جو دو دو ہوں جیسے: عین، رجل، اذن لیکن یہ حکم اکثری ہے، کیونکہ صدغ، مرفق، حاجب، خدّ، لحیہ ذکر ہیں، حالانکہ یہ سب دو دو ہیں۔

لغت میں مؤنث معنوی کے ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں، جن میں سے بعض مذکورہ بالا ضوابط کے تحت نہیں آئے، یہ کثیر التعداد ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ہم ذیل میں ذکر کر رہے ہیں۔ اذن، ارض، ارنب، اصبع، افعی، بئر، جحیم، جهنم، حرب، دار، ذراع، رجل، رِحم، رَحَی، ریح، سن، ساق، شمس، شِمال، ضَبُع، عروض، عصا، عَقِب، عین، فأس، فخِذ، فُلك، قَدَم، قوس، كأس، كتف، كرِش، كف، نار، نعل، ناب، ورك، يد، يمين پھر ہوا کے نام ہیں جیسے صبا، قبُول، جَنُوب، دَبُور، شمال، هيف، حرور، سَمُوم وغیرہ۔

ان کے علاوہ کچھ اسماء ہیں، جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں۔ ان میں سے مشہور یہ ہیں:

إبْط، إزار، حال، حانوت، خَمْر، دِرْع، دَلْو، رُوح، زقاق، سبيل، سُرَى، سراويل، سِلاح، سِكّين، سِلم، سُلَّم، سماء، سُوق، صاع، ضُحىً، طِرس، طريق، عَجُز، عضُد، عُقاب، عَقْرَب، عُنُق، عَنكَبُوت، فردوس، فَرَس، فِهْر، قِدْر، قَفًا، قميص، كبد، لِسان، مِسْك، مِلْح، مَنْجَنِيق، مُوسىً، نَفْس، وراء

ان الفاظ کے ساتھ حروف تہجی بھی ملحق ہیں۔

مثنّٰی

مثنّٰی وہ لفظ ہے جو دو کی نمائندگی کرے اور یہ وزن اور حرف میں مطابقت رکھتے ہوں اور اضافہ عطف و معطوف کا قائم مقام ہو۔ کسی اسم کو مثنیٰ بنانا ہو تو اس کے آخر میں حالت رفعی میں الف اور حالت نصبی و جری میں یاء ما قبل مفتوح اور دونوں حالتوں میں نون مکسور زیادہ کریں۔ جیسے جاء الرجلان و رأیت الرجلین و مررت بالرجلین

اگر کوئی عَلَم مرکب اضافی ہو تو جزء اول یعنی مضاف کو مثنیٰ لائیں گے جیسے عبدا المَلِك اگر مرکب بنائی یا مرکب اسنادی ہو تو اپنی حالت پر رہیں گے اور ان سے پہلے مذکر میں ذو اور مونث میں ذوات لائیں گے، جیسے ذوا معدی کرب و ذواتا بعلبك کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا تثنیہ نہیں مثلاً: بعض، اجمع، جمعاء، کل، واحد و عُرَيْب و دیار اور اسماء عدد اور اسم تفضیل جنہیں من سے استعمال

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کیا گیا ہو جیسے الیدان افضل من الرِجلین۔

اسم منقوص کا تثنیہ

اسم منقوص وہ اسمِ معرب ہے جس کا آخر یا ماقبل مکسور ہو جیسے القاضِی میں اگر یاء حذف ہوگئی ہو تو تثنیہ کی حالت میں پھر لوٹ آئے گی، جیسے رامٍ سے رامیان، داعٍ سے داعیان ہیں۔

اسم مقصور کا تثنیہ

اسم مقصور وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف ہو اور اس کے بعد ہمزہ نہ ہو، یہ الف یا تو تیسرا ہو یا چوتھا یا اس کے اوپر۔ اگر الف تیسری جگہ ہو اور کسی سے بدل کر آیا ہو تو تثنیہ میں اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا جیسے رجَا رجوَانِ اور فتًی فتَیانِ۔ اگر چوتھی جگہ یا اس سے بھی اوپر ہو تو یا سے بدل جائے گا۔ جیسے ذِکریَانِ: لیکن قہقرانِ و خوْزلانِ خلاف قیاس ہیں۔ قیاس قہقریان اور خوزلیان ہے، یعنی الف کو یاء سے بدل کر۔

اسم ممدود کا تثنیہ

ممدود وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو۔ اگر اس کا ہمزہ تانیث کیلئے ہو۔ جیسے خضراء تو واؤ میں بدل جائے گا اور کہا جائیگا خضراوان بشرطیکہ الف سے پہلے واؤ نہ ہو جیسے عشواء تو ہمزہ کا باقی رکھنا ضروری ہے تاکہ دو واؤ جمع نہ ہو جائیں جیسے عشواء سے عشواءان

اگر ممدود کا ہمزہ اصلی ہو تو اس وقت بھی اس کا باقی رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ کہیں گے لألاء لألاءان، قراء قُرّاءان

اگر ممدود کا ہمزہ نہ تو اصلی ہو اور نہ مونث کا تو دونوں صورتیں جائز ہیں، جیسے سماء سماءان و سماوان

ان اسماء کا تثنیہ جن کا لام کلمہ محذوف ہو۔

جب ایسے اسماء جن کا تثنیہ بنانا ہو اور ان کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض میں کچھ نہ ہو تو محذوف لام کلمہ واپس آجائے گا۔ جیسے اب کہ اصل میں ابو تھا اسے تثنیہ میں ابوان کہیں گے۔ اسی طرح احوان و حموانِ و غلوان لیکن فم اور ید میں تثنیہ یدان و فمان ہوگا، واؤ واپس نہیں آئے گا۔

ایسے اسماء جن کے محذوف کے عوض میں کچھ ہو تو تثنیہ اپنی حالت پر بنایا جائے گا مثلاً سنة، ابن اسم میں سنتان، ابنان اور اسمان کہیں گے۔

جمع :

جمع مذکر سالم : وہ ہے جس کے آخر میں حالت رفعی میں واؤ ماقبل مضموم ہو یا حالت نصبی و جری میں یاء ماقبل مکسور ہو پھر ان کے بعد ن مفتوحۃ ہو۔ جیسے مسلمون (حالت رفعی میں) مسلمین (حالت نصبی و جری میں)۔

یہ جمع کسی شخص کے عَلَم کے سوا نہیں آتی۔ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ تاء تانیث سے خالی ہو، مفرد ہو مرکب نہ ہو۔ چنانچہ ایسی جمع مثال کے طور پر طلحۃ کی نہیں بنائی جائے گی، اگرچہ وہ ایک مرد کا عَلَم (نام) ہے۔ کیونکہ اس میں تاء تانیث پائی جاتی ہے۔ بلکہ جمع مونث سالم بنائی جائے گی، نہ ہی معدی کرب، عبدالملک تابط شراً کی جمع مذکر سالم لائی جائے گی بلکہ ایسا عَلَم اپنے لفظ پر مبنی رہے گا اور اس سے پہلے ذوو لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ذوو معدی کرب، ذوو تابّط شراً یعنی اس نام والے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کچھ ایسے اسماء ہیں جن میں یہ شرطیں نہیں پائی جاتیں مگر جمع مذکر سالم کے وزن پر ان کے جمع آتی ہے۔ مثلاً ارضون ، عالمون، عِلّیون و اھلون و بنون، سنون اور اسی طرح ہر وہ کلمہ ثلاثی جس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہو اور اس کے عوض میں تاء تانیث لایا گیا ہو اس کی جمع واؤ نون سے آتی ہے۔ جیسے عِضُون، ثُبُون، مِئُون، عضة، ثبة اور مائة کی جمعیں ہیں۔

جمع مؤنث سالم

جمع مؤنث سالم وہ ہے، جس کے آخر میں الف اور تاء مبسوطه (ت) بڑھائی جائے۔ جیسے ثمرات، شجرات۔ اگر مفرد کے آخر میں پہلے ہی سے تاء ہو تو جمع بناتے ہوئے اسے حذف کر دیتے ہیں اور اس کا حذف تکسیر نہیں سمجھا جاتا۔

اس وزن پر مندرجہ ذیل اسماء کی جمع آتی ہے۔

۱۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں تاء تانیث ہو جیسے شجرات (شجرة سے) امراة، شاة، قلَّة، امَة، ملَّة، شفَة اس سے مستثنیٰ ہیں۔

۲۔ ہر وہ اسم جو مؤنث کا عَلَم ہو جیسے مریمات (مریم سے)

۳۔ ہر وہ اسم جو مصدر ہو اور تین حروف سے زائد ہو، جیسے تعریفات، امتیازات۔

۴۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث ہو، مقصورہ ہو یا ممدودہ جیسے صحراء سے صحراوات، حمّٰی سے حمّیات

ان اسماء مقصورة یا ممدودہ میں الف کی تبدیلی یا بقاء کے متعلق وہی صورتیں اختیار کی جائیں گی جن کا ذکر مثنّٰی میں ہو چکا۔

ان مذکورہ بالا کے علاوہ اسماء میں اس وزن پر جمع کا آنا سماعی ہے جیسے سماوات، ارضات، سجلاّت، حمّامات، سُرادقات، شمالات و امھات۔

عجمی اسماء میں سے بعض کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے جیسے تلغرافات اور بعض کی جمع جمع: مکسّر آتی ہے جیسے أساکل، قناصل، بطارکة و کرادلة۔

تنبیہ: اگر کلمہ ثلاثی ہو اور اس کا عین کلمہ صحیح اور فَعْل اور فَعْلَة کے وزن پر ہو تو جمع بناتے ہوئے عین کلمہ کو فتحہ دینا ضروری ہے، جیسے ثَمْرة سے ثَمَرات، رَحْمة سے رَحَمات۔

اگر فِعْل یا فُعْل کے وزن پر ہو تو فتحہ دینا، ساکن رکھنا اور فا کلمہ کی حرکت جیسی حرکت دینا بھی جائز ہے۔ جیسے کَسْرة سے کِسِرات، کِسَرات و کِسْرات، حُجْرَة سے حُجُرات و حُجَرات و حُجْرات۔

اگر کلمہ اجوف ہو تو عین کلمہ جمع کی صورت میں ہمیشہ ساکن رہے گا۔ خواہ فا کی حرکت کیسی ہی ہو جیسے جَوْزة سے جَوْزات، بِیْعة سے بیعات

اگر ناقص ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحیح کا ہے جیسے رَمْیة سے رَمَیات، رُقْوة سے رُقُوات و رُقَوات و رُقْوات، اگر فا کلمہ مکسور اور لام کلمہ واوی ہو تو صرف فتحہ دینا اور ساکن رکھنا جائز ہے، فا کا ہمشکل بنانا جائز نہیں۔ جِرِوات شاذ ہے، اس طرح اگر فا مضموم ہو اور لام یائی تو بھی مذکورہ بالا دونوں صورتیں ہوں گی اتباع جائز نہ ہوگا۔

اگر کلمہ مدغم ہو تو جمع بناتے ہوئے تو فك ادغام نہیں ہوگا جیسے ضمّة سے ضمّات اور عزّة سے عزّات

جمع مکسَّر:

جمع مُکسَّر وہ ہے، جس میں واحد کا وزن قائم نہ رہے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اس کی تین صورتیں ہیں، (۱) حرکت کی تبدیلی جیسے اَسَـد سے اُسُـد (۲) ایک حرف کی تبدیلی جیسے رَسُـول سے رُسُـل (۳) زیادتی سے جیسے رَجُل سے رِجال جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں: (۱) جمع قلّت جمع کثرت جمع قلت وہ ہے جس سے تین سے دس تک کی تعداد ظاہر ہو اس کے چار وزن ہیں:

۱۔ اَفْعَال: جیسے اظفار جو ظُفُر کی جمع ہے۔
۲۔ اَفْعُل: جیسے اَنْفُس جو نَفْس کی جمع ہے۔
۳۔ اَفْعِلة: جیسے اَرْغِفَة جو رغیف کی جمع ہے۔
۴۔ فِعْلَة: جیسے فِتْيَة جو فتًى کی جمع ہے۔

اَفْعال اور اَفْعُل کی دوبارہ جمع سے دوسری جمع جمع کثرت بن جاتی ہے۔ افعال کی جمع افاعیل ہے جیسے اظفار سے اظافیر جبکہ اَفْعُل کی جمع اَفَاعِل کے وزن پر ہے۔ جیسے اَضْلُع کی جمع اَضَالِع۔ افاعیل اور افاعل کو منتهى المجموع کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اس صیغہ سے مراد تمام وہ اوزان ہیں جن میں الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ہوں جیسے مساجد، منابر یا تین حروف ہوں اور درمیانی یاء ساکن ہو۔ جیسے قنادیل و مصابیح ۔

تنبیہ: جمع قلت پر الف استغراقی داخل ہو (الف استغراقی وہ ہوتا ہے، جس کی جگہ کل کا لفظ استعمال کیا جا سکے) یا ایسی چیز کی طرف اضافت ہو جو کثرت پر دلالت کرے تو جمع قلت کثرت کا فائدہ دیتی ہے جیسے یاایها الشیوخ لاتکونوا کالفتیه، احفظوا انفسکم، جمع کثرت وہ ہے جو تین اور اس سے اوپر نا ختم ہونے والی تعداد پر دلالت کرے۔

سعد تفتازانی کا کہنا ہے کہ جمع قلت تین سے دس تک ہے اور جمع کثرت تین سے نا ختم ہونے والی تعداد ہے فرق انتہاء کی حیثیت سے ہے۔

جمع سالم کی دونوں قسمیں بعض کے نزدیک جمع قلت کے لئے ہیں اور بعض کے نزدیک مطلق جمع ہے اور ان میں قلت یا کثرت کا کوئی لحاظ نہیں بلکہ دونوں کے لئے مفید ہیں۔

آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہر وہ جمع جس کا صرف ایک وزن ہو اس کا اطلاق قلت و کثرت دونوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ارجل، اعناق، افئدة جو رِجل، عُنُق اور فؤاد کی جمع ہیں۔

جمع کثرت کے اوزان:

جمع کثرت کے اوزان تو بہت ہیں لیکن ان میں سے صرف دس قیاسی ہیں، جو حسب ذیل ہیں:

۱۔ فُعَل: فُعْلَة کی جمع جیسے غُلَب، صُوَر، صُرَر جو غُلْبَة، صُوْرَة اور صُرَّة کی جمع ہیں۔
۲۔ فِعَل: فِعْلَة کی جمع جیسے قِطَع جو قِطْعَة کی جمع ہے، لیکن کبھی فُعْلَة کی جمع فِعَل کے وزن پہ بھی آتی ہے جیسے لِحَى لِحْيَة کی جمع اور حُلَى حِلْيَة کی جمع ہے۔
۳۔ فَعَالِل ہر رباعی مجرد کی جمع جیسے بَلابِل، حنادِس جو بُلْبُل اور حِندِس کی جمع ہیں۔ نیز یہ خماسی مجرد اور مزید فیہ کی جمع کا وزن بھی ہے، جیسے سفرجل کی جمع سفارج اور خَنْدَرِیس کی جمع خَنَادِس۔
۴۔ فَوَاعِل: ہر ثلاثی کی جمع جس کے فا کلمہ کے بعد واو یا الف کی زیادتی ہو، جیسے جَوَاهِر، خَوَاتِم جو جَوْهَر اور خَاتَم کی جمع ہیں۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۵۔ فَعَائِل: ثلاثی کی جمع جس کا تیسرا حرف مدہ ہو جیسے صحائف، رسائل جو صحیفة و رسالة کی جمع ہیں۔

۶۔ أَفَاعِل افعل (بتثلیث الهمزه) کی جمع جیسے اِصْبَع کی جمع اَصَابع، انُملة کی جمع اَنَامِل اور أَجْدَل کی جمع اَجَادِل۔

۷۔ أَفَاعِيل أُفْعُول یا أُفْعُوله کی جمع جیسے اراجیز، اسالیب جو ارجوزه اور اسْلُوب کی جمعیں ہیں۔

۸۔ فَعاليل ہر رباعی کی جمع جس کے آخر سے پہلے حرف مدہ ہو جیسے قَرَاطیس، عصافیر جو قرطاس اور عصفور کی جمع ہیں۔

۹۔ مَفَاعِل مِفْعَل اور مِفْعَلة کی جمع جیسے مَبَاضِع، مَكَانِس جو مِبْضَع اور مِكْنَسة کی جمع ہیں۔

۱۰۔ مَفَاعِيل مِفْعَال، مِفْعِيل اور مَفْعُول کی جمع جیسے مَفَاتِيح، مَسَاكِين، مَقَادِير جو علی الترتيب مِفتاح، مِسكين اور مقدور کی جمعیں ہیں۔

اسم الجمع و شبه الجمع

اسم جمع وہ ہے جس میں جمع کا معنی ہو اور اس کا اسی لفظ سے مفرد نہ آتا ہو۔ جیسے خیل، جمع، قوم، جیش

شبہ جمع وہ ہے جو جمع کے معنے رکھتا ہو اور واحد کا فرق تاء سے ہو جیسے وَرَق و تَمَر کیونکہ مفرد ورقة اور ثَمْرة ہیں۔ اسی قبیل سے ہے جس کے واحد اور جمع میں یائے نسبتی کی وجہ سے فرق ہو جیسے الرومی الروم کا واحد ہے اور المجوسی المجوس کا مفرد ہے۔

لیکن پہلا غیر ذوی العقول کے لئے ہے اور دوسرا ذوی العقول کے لئے۔ ہر اسم جمع اور شبہ جمع کی جمع مفردات کے طرز پر آتی ہے جیسے قوم: کی جمع اقوام: ثوب کی اثواب، رفقه کی جمع رُفَق، غرفة کی جمع غُرَف، نجم کی انجم، نفس کی انفس روم کی اروام، نار کی انوار،

صفت

صفت وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی وصف ہے۔ اس کی پانچ قسمیں ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، افعل تفضیل اور اوزان مبالغہ۔

صفت کی تانیث: صفت کے صیغہ کو اگر مؤنث بنانا ہو تو اس کے آخر میں تاء لگائیں جیسے صادق سے صادقة، کاذب سے کاذبة، لیکن وہ صفت جو فَعْلان، أَفْعَل، افعل تفضیل کے وزن پر ہو اس کے مؤنث بنانے کے احکام مخصوص ہیں۔

۱۔ فعلان کے وزن پر صفت اس کی مؤنث فَعْلَى کے وزن پر آتی ہے، جیسے عطشان سے عَطْشَى، سَكْران سے سَكْرَى، ظَمْآن سے ظَمْأَى، اس قاعدہ کے خلاف اَلْيَان، حَبْلان، خَصْمَان، دَخْنَان، سَخْنَان، صَوْجَان، قَشْوان، مَسَّان، مَوْتَان، نَدْمَان، نَصْران کی مؤنث تاء کے ساتھ آتی ہے۔ فعلان وزن کی کچھ صفات کی مونث فَعْلَى کے وزن پر یا تاء لگانے سے آتی ہے، جیسے عطشان کی مونث عطشی یا عطشانه اور غضبان کی مونث غضبی یا غَضْبَانَة

۲۔ افعل وزن کی صفت کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے، جیسا ابیض کی بیضاء اور اسمر کی سمراء

۳۔ افعل تفضیل کی مؤنث فُعْلَى کے وزن پر آتی ہے الاکرم کی مونث الكُرْمَى اور الاصغر کی الصغْرَى لیکن اگر کلمہ ناقص واوی ہو تو واو کو یاء سے بدل دیتے ہیں جیسے أُحْلَى سے حُلْيَا اور اَدْنَى سے دُنْيا

کچھ ایسی صفات بھی ہیں جن میں مذکر و مؤنث یکساں ہے۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ فَعَّالَة جیسے رجلٌ فَهَّامَة، امرأة فهَّامَة۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ مِفْعَال جیسے: رجلٌ مِفْضَال و امرأةٌ مِفْضَال۔ (مِيقَانة شاذ ہے)
۳۔ مِفْعِيل جیسے: رجلٌ مِعْطِير و امرأةٌ مِعْطِير (مِسْكِينَة شاذ ہے)
۴۔ مِفْعَل جیسے: رجلٌ مِغْشَم و امرأةٌ مِغْشَم
۵۔ فُعْلَة و فُعَلَة جیسے: ضُحَكَة (بہت ہنسنے والا)، هُمَزَة (بہت عیب لگانے والا) هُزَءَة و بہت ٹھٹھا کرنے والا)۔
٦۔ فعول فاعل کے معنی میں اور فعيل مفعول کے معنی میں اس وقت آتا ہے جب موصوف مذکور ہو جیسے رجُل صبور، امرأة صبور، غلام قتيل، امرأة قتيل (عدوّة شاذ ہے)

اگر موصوف مذکور نہ ہو، تو تاء سے فرق کرنا چاہئے۔ کبھی موصوف مذکور ہونے کے باوجود فعيل مؤنث بالتاء آتا ہے، جیسے: خَاتِمَةٌ سعيدة، عاقبة حميدة۔

کبھی فعيل فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے آخر میں تاء نہیں لگائی جاتی: جیسے امرأة عقيم اور يحي العظام و هي رميم میں۔

وہ صفات جو عورتوں سے خاص ہوں اور حدوث کا معنی مقصود نہ ہو تو عموماً آخر میں تاء نہیں آتی جیسے طالِق، مُرضِع، حامل۔ اگر یہ مقصود ہو تو تاء آتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے: ارضعت فهي مُرْضِعَة (عورت کا بچہ کے منہ میں پستان ڈال کر دودھ پلانا صفت مُرْضِعَة)

صفت تانیث

صفت ذوى العقول کے لئے جو خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث تو صفت کی جمع، جمع سالم لائی جاتی ہے، جیسے رجالٌ صادقون، نساء صادقات، لیکن جو صفت أَفْعَل فَعْلَاء اور فَعْلَان فَعْلَى کے وزن پر ہو یا اسم فاعل ناقص سے ہو اور فعيل مفعول کے معنی میں ہوں اور اس کے مطابق، تو ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک مخصوص حکم ہے، جیسا کے ذیل میں ہے:

۱۔ جب صفت أفْعَل فعلاء کے باب سے ہو تو اس کی جمع فُعْل کے وزن پر آتی ہے، جیسے: أَحْمَر کی جمع حُمْر، أَعْرَج کی جمع عُرْج، لیکن اگر کلمہ اجوف یائی ہو تو فا کو جمع میں کسرہ دیا جاتا ہے جیسے أَغْيَد، أَبْيَض اور أَهْيَف کی جمع غِيد، بِيض اور هِيف میں،
۲۔ جب صفت باب فَعْلَان فَعْلَى سے ہو اس کی جمع فُعَالَى یا فِعَال کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے سُكَارَى و حُيَارَى و جِيَاع و غِضَاب جو سكران، حيران، جوعان اور غضبان کی جمع ہیں۔
۳۔ اسم فاعل ناقص کی جمع فُعَلَة کے وزن پر آتی ہے جیسے رُمَاة و غُزَاة جو الرامي و الغازى کی جمع ہے اور رماة دراصل رُمَيَة اور غُزَاة غُزَيَة ہے۔
۴۔ جو مادہ ہلاکت، درد یا تشتت کے معنی پر دلالت کرے اس سے فعيل بمعنی مفعول فَعْلَى کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے جَرِيح جمع جَرْحَى، صَرِيع جمع صَرْعَى و شتيت جمع شَتّى۔

• فعيل بمعنی فاعل جو معنی میں اس سے مشابہت رکھتا ہو اس سے مربوط کیا جاتا ہے جیسے مَرِيض جس کی جمع مَرْضَى ہے اور اگر فَعِل کے وزن پر ہو جیسے زَمِن جس کی جمع زَمْنَى ہے اور اگر فَاعِل کے وزن پر ہو جیسے هَالِك جس کی جمع هَلْكَى ہے (مريضة کی جمع آج کل مريضات بھی مستعمل ہے)۔

صفات کی جمع کے باقی قیاسی اوزان چھ ہیں اور وہ فُعَّال، فَعَلَة و فُعَّل و فَوَاعِل و فُعَلاء اور أَفْعِلاء ہیں۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۱۔ فُعَّال اور فعَلَة اس اسم کی جمع ہیں جو فاعل کے وزن پر ہو اور اس کا لام کلمہ صحیح ہو جیسے: زُوَّار جو زائِر کی جمع ہے اور صُوَّام جو صائِم کی جمع ہے اور کَتَبَة جو کاتِب کی جمع ہے اور ظَلَمة جو ظالِم کی جمع ہے۔

عموماً فعَلَة اجوف سے فاعل کی جمع کے لئے آتا ہے جو کسی پیشے پر دلالت کرتا ہو جیسے سَاقَة، بَاعَة حاكَة (جو اصل میں سَوَقَة، بَيَعَة اور حَيَكَة ہیں)۔ ان کے واحد علی الترتیب سائق، بائع اور حائك ہیں۔

۲۔ فُعَّل بھی فاعِل کی جمع ہے جیسے: سُجَّد، نُوَّم اور جُوَّع جو بالترتیب ساجد، نائِم اور جائع کی جمعیں ہیں۔

۳۔ فَواعِل فاعِلة کی جمع ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: صواحب، ضَوارِب جو بالترتیب صاحبة اور ضَارِبة کی جمعیں ہیں۔ فَوَاعِل کے وزن پر اس فاعل کی جمع بھی آتی ہے جو عورتوں کی صفات کے لئے ہو جیسے عَوَاقِر، حَوَامِل، طَوَالِق جو بالترتیب عاقر، حامل اور طالِق کی جمع ہیں۔

۴۔ فُعَلاَء فعیل بمعنی فاعل کی جمع ہے، جیسے: کُرَمَاء، عُلَمَاء جو کریم، علیم کی جمعیں ہیں)۔

۵۔ أفعِلاء مضاعف یا معتل اللام سے فعیل کے وزن پر صفت کی جمع ہے، جیسے: غَنِّی کی جمع اغنیاء اور قَوِیّ کی جمع اَقْوِیَاء ہے۔

اسم تفضیل کی جمع سالم ہوتی ہے، جیسے اعظم کی جمع اعظمون، اکرم کی جمع اکرمون، اور جمع مکسَّر اَفَاعِل کے وزن پر بھی آتی ہے، جیسے اَصاغِر اور أَکابِر جو اَصْغَر اور اکبر کی جمع ہیں)۔

مونث اسم تفضیل (فُعْلَی) کی جمع سالم فُعْلَیَات کے وزن پر آتی ہے جیسے عُظْمَیَات و کُرمَیات اور جمع مکسّر فُعَل کے وزن پر بھی آتی ہے جیسے الصُّغَر والکُبَر۔

صیغہ منتهی الجمع کی جمع سالم آتی ہے جیسے ضوارِبات جو ضوارب کی جمع ہے اور اَفَاضِلُون جو افاضِل کی جمع ہے۔

نسبت

کسی چیز کی طرف نسبت ظاہر کرنے کے لئے اسم کے آخر میں یاء مشدد لگانے کا نام نسبت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یاء کے ماقبل مناسبت کی وجہ سے کسرہ دیا جائے، جیسے رجُلٌ لبنانیٌّ۔

اگر منسوب الیہ اسم ثلاثی مکسور العین ہو تو نسبت کرتے وقت تو اس کے عین کلمہ کو فتحہ دیا جائے گا چنانچہ فَخِذ میں فَخَذِیّ اور مَلِك میں مَلَكِیّ کہا جائیگا۔

اگر اسم منسوب الیہ رباعی مکسور العین ہو تو افصح یہ ہے کہ اس کے عین کلمہ پر کسرہ باقی رہے جیسے مشرق میں مشرقیّ، مغرب میں مَغْرِبِی اور یثرِب میں: یثرِبِی

اگر کسی ایسے اسم کی طرف نسبت کی جائے جس کے آخر میں تائے تانیث ہو تو اس کا حذف کرنا لازمی ہے جیسے ناصِرة سے ناصِرِیّ۔

اگر اسم کے آخر میں تیسرا حرف الف مقصورہ ہو تو نسبت کرتے وقت اسے واو سے بدل دیا جائے گا، جیسے عُصَا سے عصَوِیّ، فتًی سے فَتَوِیّ،

۲۔ اگر چوتھا حرف ساکن ہو اور اصلی ہو تو اکثر اسے واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے مَرْمَی سے مَرمَوِیّ اور حذف بھی جائز ہے چنانچہ مَرْمِیّ بھی کہہ سکتے ہیں۔

اگر زائد ہو خواہ تانیث کے لئے ہو یا الحاق کے لئے ہو تو حذف کا اختیار ہے اور حُبْلِیّ اور ذِفْرِیٌّ کہا جائے گا مگر اسے واؤ سے بدل کر

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حُبلَوِیّ اور فِرَوِیّ کہنا بھی جائز ہے۔لیکن جب الف تانیث واو سے بدل جائے تو اکثر اس سے پہلے الف بڑھادیا جاتا ہے اور کہاجاتا ہے طُوباوِیّ اور دُنیاوِیّ۔

۳۔ اگر الف مقصورہ ایسے اسم میں واقع ہو جس کا دوسرا حرف متحرک ہو تو حذف کردیا جاتا ہے اور بَرَدٰی میں مثلاً کہاجاتا ہے بَرَدِیّ (بَرَدٰی میں اسم مقصور حذف کردیا گیا ہے) اسی طرح اگر چار سے اوپر ہو تو مُصطَفٰی میں مُصطَفِیّ کہاجائے گا۔بعض کے نزدیک اس کا واو سے بدلنا بھی جائز ہے مُصطَفوِیّ بھی درست ہے۔

آخر میں الف تانیث ممدودہ والے اسم کی طرف نسبت دینے کا قاعدہ۔

۱۔ جب الف ممدودہ تانیث کے لئے ہو تو واو سے بدل دیا جائے گا، جیسے صفراء کی طرف نسبت میں کہاجائے گا صَفرَاوِیّ۔

۲۔ اگر وہ اصلی ہو تو اس کا باقی رکھنا ضروری ہے، چنانچہ قرّاء سے نسبت کیلئے کہیں گے قرّائی اور ابتداء سے نسبت دینے کے لئے ابتدائی کہا جائے گا۔

۳۔ اگر اصلی نہ ہو تو اس کا باقی رکھنا اور واو سے بدلنا جائز ہے۔جیسے رداء سے ردائی یا رِداوِیّ، سماء سے سمائی و سَمَاوِیّ لیکن شاء میں مسموع صرف شاوِیّ ہے۔

اسم منقوص کی طرف نسبت کرنے کا قاعدہ

۱۔ اگر اسم منقوص کی یاء تیسری جگہ ہو تو واو سے بدل جائے گی اور اس سے ماقبل کو فتحہ دیا جائے گا جیسے عم سے عَمَوِیّ

۲۔ اور اگر چوتھی جگہ یا اس سے زائد جگہ پر ہو تو اس کا حذف جائز ہے۔جیسے قاضٍ سے قاضِیّ اور ماضٍ سے ماضِیّ اور واؤ سے بدلنا بھی جائز ہے اور اس وقت اس کا ماقبل مفتوح ہوگا اور کہاجائے گا قاضَوِیّ، ماضَوِیّ۔

۳۔ لیکن اگر پانچویں یا اس زیادہ جگہ پر ہو تو اس کا حذف ضروری ہے، چنانچہ المستعلی سے نسبت مستعلیّ اور المعتدی سے نسبت مُعتَدِیّ ہوگی۔

وزنِ فعیل کی طرف نسبت کا قاعدہ

اگر کلمہ فعیل کے وزن پر ہونے کے ساتھ اس کے آخر کا حرف صحیح ہو تو یہ وزن اپنی حالت پر باقی رہے گا۔جیسے مسیح سے مسیحیّ، صلیب سے صلیبی اور حدید سے حدیدیّ میں۔

لیکن اگر فعیل ناقص ہو تو اس دو یاؤں میں سے ایک حذف کردی جائیگی اور دوسری واؤ سے بدل دی جائے گی اور اس سے ماقبل کو فتحہ دیا جائے گا چنانچہ غَنِیّ سے نسبت کیلئے کہیں گے غَنَوِیّ اور عَلِیّ سے نسبت کے لئے کہیں گے عَلَوِیّ

وزنِ فعلیة کی طرف نسبت کا قاعدہ۔

فَعِیلَة کی طرف نسبت دینے کے لئے، اگر وہ مضاعف یا معتل نہ ہو یاء حذف کرکے ماقبل کو فتحہ کے ساتھ مدینة کی طرف نسبت میں مَدَنِیّ کہاجائے گا اور فریضة کی طرف نسبت میں کہاجائے گا فَرَضِیّ جبکہ بعض الفاظ میں یاء کا باقی رہنا شاذ ہے) جیسے طبیعی و سلیقیّ میں۔

اگر مضاعف اور معتل العین ہو تو کچھ حذف نہ ہوگا چنانچہ طویلة سے نسبت ظاہر کرنے کے لئے کہاجائیگا طَوِیلِی اور عزیزة سے نسبت کے لئے کہاجائے گا عَزِیزی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فُعَیْل و فُعَیْلَة کی طرف نسبت کا قاعدہ۔

فَعِیل اورفعیلة کی طرف نسبت کا جوطریقہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے فُعَیل اورفُعَیلة کی طرف نسبت کا بھی وہ قاعدہ ہے۔ چنانچہ عُقَیل کی طرف نسبت کے لئے کہیں گے عُقَیلی، قُصَیّ کی طرف نسبت کے لئے قُصَوِیّ، قُلَیلة کی طرف نسبت کے لئے قُلَیلی اوراُمَیْمَة کی طرف نسبت کے لئے اُمَیْمِی

ایسے اسم کی طرف نسبت کا قاعدہ جس کے آخر میں واو ہو

اگر کسی اسم کے آخر کی واؤ چوتھی جگہ یا اس سے اوپر کی جگہ پر ہواور اس سے ماقبل پر ضمہ ہو تو نسبت کرتے ہوئے واو حذف کردی جائے گی۔ اورقَلَنْسُوَة کی طرف نسبت کرتے ہوئے قَلَنْسِيّ اورترقُوَة کی طرف نسبت کے لئے تَرقِيّ کہا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو واؤ باقی رہے گا اورعدوّ کی طرف نسبت کے لئے عدوّی: اوردَلو کی طرف نسبت کے لئے دَلْوِی کہا جائے گا۔

آخر میں یاء مشدّد والے اسم کی طرف نسبت کا قاعدہ۔

۱۔ جب یاء مشدّدہ پرختم ہونے والے اسم سے پہلے دو سے زائد حرف ہوں تو یاء مشددہ کا حذف ضروری ہے۔ شافعیّ کی طرف نسبت کے لئے کہا جائے گا شافعیّ اوراسکندرية کی طرف نسبت کے لئے کہا جائے گا۔ اسکندریّ

۲۔ اگر یاء سے پہلے ایک ہی حرف ہو جیسے حیّ میں تو دوسرے حرف کو فتحہ دینا اور تیسرے کو واؤ سے بدل دینا ضروری ہے چنانچہ حیّ کی طرف نسبت میں حَیَوِیّ کہا جائے گا۔ اگر دوسرا حرف واؤ سے بدلا ہوا ہو تو وہ لوٹایا جائے گا اور طیّ کی طرف نسبت میں طوَوِیّ کہا جائے گا۔

ایسے اسم کی طرف نسبت کا قاعدہ جس کا کوئی حرف محذوف ہو

۱۔ اگر کسی کلمہ کا آخری حذف ہوگیا ہواور محذوف منه میں دوحرف باقی ہوں تو اس محذوف کو واپس لایا جائے گا جیسے اب سے نسبت کے لئے ابویّ اوراخ سے نسبت کے لئے اخویّ کہا جائے گا۔ جہاں تک اخت اوربنت کا تعلق ہے تو ان کی طرف نسبت میں تاء برقرار رہے گی اوراختیّ و بنتیّ کہا جائے گا۔ بعض تاء کو حذف کر کے کہتے ہیں اخویّ و بنویّ لیکن ابنة میں ابنیّ اوربَنَوِی کہا جاتا ہے۔

۲۔ یدودم جیسے الفاظ میں محذوف لوٹانا جائز ہے اور فصیح تر ہے۔ اس وقت اگر وہ یاء ہو تو واؤ سے بدل دی جائے گی اور کہا جائے گا۔ یدویّ، دمویّ ۔ اورلفظ بدلے بغیر بھی نسبت کرنا جائز ہے، اس صورت میں کہا جائے گا یدیّ، دمیّ ۔

اگر کسی کلمہ میں محذوف کے عوض میں ہمزہ وصل لایا گیا ہو جیسے ابن اوراسم میں، تو ہمزہ کو حذف اور محذوف لوٹا کر بَنَویّ اورسَمَوِیّ کہنا جائز ہوگا۔ اورلفظ پر ہی نسبت کرنا بھی جائز ہے۔ اسی صورت میں کہا جائے گا۔ ابْنِی، اسمیّ ۔

اگر محذوف کے بدلے میں تاء تانیث ہو تو تاء تانیث حذف کی جائے گی اور محذوف لوٹایا جائے گا اورسنة، لُغَة میں سنوی اورلُغَوِیّ اورزِنة اورصِلَة میں وَزْنِیّ اوروَصْلِیّ کہا جائے گا۔

مثنی اورجمع کی طرف نسبت کرنے کا قاعدہ

مثنی اورجمع کی طرف نسبت کرنا ہو تو انہیں مفرد کی طرف لوٹا کر یائے نسبتی لگائی جائیگی جیسے عراقین سے عراقیّ اورمسلمین سے مسلمّی اوریہی حکم ان کا بھی ہے جو تثنية اورجمع کے ساتھ لاحق ہوں، جیسے اثنین، عشرین، اربعین کی طرف نسبت کیلئے کہیں گے اثنیّ و ثنویّ، عشریّ، اربعیّ ۔

ایسے جمع جن کا مفرد نہیں آتا جیسے ابابیل، عبادید یا اس کے لفظ سے جمع نہیں آتا جیسے مخاطر جو خطر کی جمع ہے، مناجد جو خُلد کی جمع ہے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اور نساء جو امراۃ کی جمع ہے، نسبت کرتے ہوئے اپنے حال پر رہیں گے، جیسے مخاطريّ، مناجذيّ، نسائيّ۔

جمع مکسّر بعض علماء صرف کے نزدیک نسبت کی حالت میں اپنی وضع پر رہیگا، جیسے ملائكة، ملوك اور كنائس کی طرف نسبت میں کہا جائے گا۔ ملائكيّ، ملوكيّ اور كنائسيّ۔

جمع مکسّر عَلَم ہو اور اس کے مماثل ہو تو اسے بھی اس کے مفرد کی طرف لوٹائے بغیر اس کی اسی حالت میں نسبت کی یاء لگادی جائے گی، جیسے انبار سے انباريّ، انصار سے انصاري اور اهواز سے اهوازيّ

مرکب بنائی علَم سے نسبت کیلئے آخر کا حرف حذف کردیا جائے گا اور اول جزء کی طرف نسبت کریں گے جیسے بعلبك، معدی کرب میں بعليّ اور معديّ کہا جائے گا۔

جہاں تک مرکب اضافی کا تعلق ہے تو کسی میں تو جزء اوّل کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کسی میں جزء ثانی کی طرف جیسے امرئُ القيس اور دير القمر سے امرئی اور ديرانيّ۔ دوسری صورت کی مثال میں عبدالاشهل سے نسبت پر اشهليّ، ابی بكر سے نسبت پر بكريّ اور عبدمناف سے نسبت پر منافيّ لیکن کبھی مرکبات اضافہ میں پورے مرکب سے نسبت کرتے ہیں گویا مرکب اضافی کو مرکب بنائی قرار دیتے ہیں، جیسے عين ابل میں عين ابليّ، وادی آش میں وادی آشيّ اور عين حور میں عين حوريّ۔

مرکب اسنادی میں جزء اول کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور جزء ثانی کو حذف کردیا جاتا ہے، جیسے تـابط شرًّا سے تـابطيّ اور ذرَّحبًّا سے ذَرِّيٌّ

ذیل میں بعض ایسے اسماء کی جدول دی گئی ہے جو قواعد نسبت کے خلاف مستعمل ہیں۔

یہ جدول حروف تہجی کے لحاظ سے مرتب کی گئی ہے۔

انف كبير	سے	انا فيّ	دير	سے	دَيْرانيّ	صدر كبير	سے	صَدُرانيّ
اميّه	سے	اَمَوِيّ	داريًّا	سے	دارانيّ	صنعاء	سے	صنعانيّ
بهراء	سے	بهرانيّ	رُوح	سے	روحانيّ	طبيعة	سے	طبيعيّ
بادية	سے	بَدَوِيّ	ربّ	سے	رَبَّانِيّ	طيّء	سے	طائي
البحرين	سے	بَحْرَانِيّ	رقبة عظيمة	سے	رَقَبَانِيّ	عميرة كلب	سے	عُمَيْرِيّ
تِهامة	سے	تِهامِيّ و تِهامٍ	روحاء	سے	رَوْحانِيّ	بني عبيده	سے	عَبَدِيّ
تيم اللات	سے	تَيْمَلِيّ	رُدَيْنَة	سے	رُودَيْنِيّ	عبدقيس	سے	عَبْقَسِيّ
ثقيف	سے	ثَقَفِيّ	رام هرمز	سے	رامِيّ	عبدشمس	سے	عَبْشَمِيّ
جمّة عظيمة	سے	جَمَّانِيّ	الريّ	سے	رازيّ	عبدالدار	سے	عَبْدَرِيّ
جذيمة	سے	جُذَمِيّ	الرباب	سے	رُبّيّ	عبدالله	سے	عبدليّ
جلولاء	سے	جَلُولِيّ	سَهْل	سے	سُهْلِيّ	فقيم كنانة	سے	فُقَمِيّ
بني الحُبلى	سے	حُبَلِيّ	سَلِيقه	سے	سَلِيقِيّ	الفراهيد	سے	فُرْهُودِيّ
حروراء	سے	حَرُورِيّ	سَلِيمة الازد	سے	سُلَيْمِيّ	قُوَيم	سے	قُوَمِيّ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الحرمین (مکة و مدینه	سے	حِرمِیّ	سُلَیم	سے	سُلَمِیّ	قُرَیش	سے	قُرَشِیّ
حضر موت	سے	حَضرَمِیّ	الشأم	سے	شَآمٍ	کنتُ	سے	کُنتِیّ
حُزَینَة	سے	حُزَنِیّ	شَعْر کثیر	سے	شَعْرَانِیّ	لحیة عظیمة	سے	لَحیَانِیّ
دَهر	سے	دُهْرِیّ	شنوءَة	سے	شَنَئِیّ	مُلَیح خُزاعَة	سے	مُلَحِیّ
مرو الشاهجان	سے	مَرْوَزِیّ	هُذَیل	سے	هُذَلِیّ	ناصرة	سے	نَصْرَانِیّ
امرؤ القیس	سے	مَرقُسِیّ	الانباط	سے	نُبَاطِیّ	الیمن	سے	یمانٍ
هَجَرَ	سے	هاجرِیّ			ونَبَاطٍ			

تصغیر

اسم کے دوسرے حرف کے بعد یـاء ساکنہ کا بڑھانا تصغیر کہلاتا ہے۔اس سے قلت یا حقارت کا اظہار ہوتا ہے۔جس اسم کی تصغیر مقصود ہو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ اور دوسرے کو فتحہ دیا جائے جیسے عبد کی تصغیر میں عُبَیْد اور رجُل کی تصغیر میں رُجَیْل۔

اگر اسم رباعی یا اس سے زیادہ ہو تو یاء تصغیر کے بعد واقع ہونے والے لفظ کو کسرہ دیا جائے گا۔جیسے درهم کی تصغیر میں دُرَیْهِم اور بُلبُل کی تصغیر میں بُلَیبِل

اگر اسم کے آخر میں علامت تانیث ہو یا الف ونون زائدتان ہوں اور جمع افعال کے وزن پر ہو تو ایسی حالتوں میں سے ہر ایک حالت کے لئے مخصوص قاعدہ ہے۔

آخر میں علامت تانیث والے اسم میں علامت سے متصل حرف اسی حالت پر رہے گا جس پر تصغیر سے پہلے تھا جیسے ثَمرَة کی تصغیر ثُمَیْرَة میں اور بُشْرَیٰ کی تصغیر بُشَیْرَیٰ اور سَمْرَاء کی تصغیر سُمَیْرَاء میں۔

جس اسم کے آخر میں الف ونون زائدتاں ہوں، اس میں بھی تصغیر سے قبل ان دونوں الف ونون سے متصل حرف اسی حالت پر رہے گا، چنانچہ سکران کی تصغیر میں کہیں گے سُکَیران

افعال کے وزن پر جمع کی تصغیر کا بھی وہی قاعدہ ہے جو اسم کا ہے جس کے آخر میں یـائے تانیث ہو چنانچہ اوقات اور اصحاب کی تصغیر، اُوَیْقات اور اُصَیْحاب ہوگی۔

اگر کلمہ مؤنث معنوی ثلاثی کا ہو تو تصغیر بنانے میں تـاء مقدرہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے، جیسے شمس کی تصغیر شُمَیْسَة اور ارض کی تصغیر اُرَیْضَة میں۔لیکن شرط یہ ہے کہ التباس پیدا نہ ہو اگر التباس کا امکان ہو تو مثال کے طور پر شجر کی تصغیر میں شُجَیْر کہا جائیگا، تاکہ شجرة کی تصغیر سے گڈمڈ نہ ہو۔خمس کی تصغیر میں جس سے مراد معدود مؤنث ہے خُمَیْس کہا جائیگا تاکہ خمسة جو معدود مذکر کے لئے آتا ہے، اس کی تصغیر خمیسة سے گڈمڈ نہ ہو۔

حرف علت والے کلمہ کی تصغیر

ا۔ یـاء تصغیر سے قبل واقع بدلا ہوا حرف علت، تصغیر کے وقت اپنے اصل کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔چنانچہ بـاب کی تصغیر بُوَیْب اور نـاب کی نُیَیْب آتی ہے، باب میں الف واء سے بدلا ہوا ہے۔جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی جمع ابواب ہے۔نـاب میں الف یـاء سے بدلا ہوا ہے کیونکہ اس کی جمع انیاب ہے۔اور قاعدہ یہ ہے کہ جمع تکسیر اشیاء کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اگر کسی کلمہ کا الف ایسا ہو کہ پتہ نہ چلے کہ وہ واؤ سے بدلا ہوا ہے یا یاء سے جیسے عــاج کے الف میں، تو وہاں پر ماقبل کے ضمہ کا لحاظ کرتے ہوئے اور یــا پر ترجیح دیتے ہوئے واؤ سے بدل دیا جائے گا۔ اور کہا جائیگا عُــوَیْـج۔ بدلے ہوئے واو اور یاء کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسے مـوسر، میزان چنانچہ ان کی تصغیر پر کہا جائے گا مُیَیْسِر اور مُوَیْزِیْن۔ عیاکی تصغیر عُیَیْـد شاذ ہے، کیونکہ عید کی یاء واؤ سے بدلی ہوئی ہے۔ اگر واو اور یاء بدلی ہوئی نہ ہوں جیسے سوط اور بیت میں تو واؤ اور یاء کا لفظ اپنی حالت پر رہے گا، تو سور کی تصغیر سُوَیْر اور بیت کی تصغیر بُیَیْت ہے۔

۲۔ اگر مصغر بنائے جانے والے اسم کا دوسرا حرف الف زائد ہو جیسے خــالـد، ضــارب کا الف، تو وہ واؤ سے بدل دیا جائیگا اور کہا جائے گا۔ خُوَیْلد و ضُوَیْرِب

۳۔ اگر اس کا تیسرا حرف الف یا واؤ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو یاء سے بدل دیا جائے گا اور یاء تصغیر اس میں مدغم ہو جائے گی اور عصــا، دلو، عجوز، کتاب کی تصغیر میں بالترتیب کہا جائے گا۔ عُصَیّ، دُلَیّ، عُجَیِّز و کُتَیِّب لیکن اگر واؤ متحرک ہو (جمع مکسر میں یا مفرد میں) اور لام کلمہ نہ ہو، تو اس صورت میں واو کا یاء سے بدلنا اور باقی رکھنا جائز قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ تصغیر کی صورت میں جدول، جُدَیِّل و جُدَیْوِل ہے اور اَدْوُر۔ اُدَیِّر اور اُدَیْوِر۔

۴۔ اگر اسم کا تیسرا حرف یاء ہو تو تصغیر کی یاء اس میں مدغم ہو جائے گی، جیسے مَرْیَم سے مُرَیِّم کریم سے کُرَیِّم اور جمیل سے جُمَیِّل ہیں۔

۵۔ اگر چوتھا حرف واو یا الف ہو تو ہر ایک یاء میں بدل جائے گا کیونکہ کسرہ دینے کے بعد دونوں ساکن ہو جائیں گے چنانچہ عصفور کی تصغیر پر کہا جائے گا۔ عُصَیْفِیر اور سلطان کی تصغیر پر سُلَیْطِین

افعل التفضیل ناقص سے ہو جیسے أحلَی۔ أشهَی تو تصغیر میں یاء تصغیر کا مابعد افعل التعجب کی طرح مفتوح رہے گا جیسے هو أُحَيْلَى من العسل

ایسے اسم کی تصغیر جس میں کچھ حذف ہو۔

۱۔ اگر اسم کے اصلی حروف کا باقی دو حرف ہوں تو تصغیر میں میں محذوف حرف اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جیسے اب، اخ، دم کی تصغیر میں اُبَیّ، اُخَیّ، دُمَیّ۔

۲۔ اگر اسم کے محذوف حرف کے عوض ہمزہ وصل ہو جیسے ابــن میں تو عوض کا ہمزہ وصل تصغیر بناتے وقت حذف کر دیا جائے گا اور محذوف حرف لوٹا یا جائے چنانچہ کہا جائے گا بُنَیّ

۳۔ اگر محذوف کے عوض تاء تانیث ہو جیسے زِنَۃ جو وَزَنَ کا مصدر ہے اور عِدَۃ جو وَعَدَ کا مصدر ہے، تو محذوف لوٹا یا جائے گا لیکن عوض حذف نہیں کیا جائیگا چنانچہ کہا جائیگا وُزَیْنَۃ اور وُعَیْدَۃ

لیکن اخت اور بنت کی تاء محذوف نہ ہوگی بلکہ تاء مربوطہ میں تبدیل ہو جائیگی اور تصغیر پر کہا جائے گا: اُخَيَّة، بُنَيَّة۔

مثنی، جمع سالم اور جمع قلت کی تصغیر

مثنی اور جمع سالم کی تصغیر انہی لفظوں پر بنائے جائیگی اور مؤمنان، مؤمنون اور مؤمنات سے مؤیمنان، مؤیمنون اور مؤیمنات کہیں

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گے۔ ایسا ہی جمع قلت مکسر کا حکم ہے چنانچہ ارغفۃ کی تصغیر اُرَیْغفۃ ہے۔

جمع کثرت کی تصغیر

جمع کثرت کی تصغیر بنانا ہو تو اس کے مفرد کی تصغیر بنا کر واؤ نون لگا دیا جائے جیسے غلماء کی تصغیر جو غلام کی جمع ہے اس طرح ہوگی کہ غلام کی تصغیر بنائی جائے جو یہ ہے غُلَیْم اس پر واؤ نون (جمع کے) لگانے سے غُلَیْمُون ہو جائے گا اور یہ غلماء کی تصغیر ہوگی۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ شاعر کی تصغیر شُوَیْعِر اور یوں شعراء کی تصغیر شُوَیْعِرون بنے گی۔ اگر مذکر مؤنث یا لایعقل ہو تو آخر میں واؤ نون کے بجائے الف تاء لگائیں گے، جیسے جاریۃ کی جمع جوار کی تصغیر جویریات ہوگی اور درھم کی جمع دراھم کی دریھمات۔

تنبیہ: ۱: مندرجہ ذیل الفاظ کی تصغیر خلاف قیاس آئی ہے، ابیحر بحر کی، مغیربان مغرب کی، عُشَیّان عشاء کی، اُنَیسیان انسان کی، رویجل رجل کی، اصیلال اصیل کی، عُشَیْشِیَّۃ عشیّۃ کی، اُصَیْبِیَۃ صبیۃ کی اور اُغَیْلِمۃ غِلمۃ کی تصغیر ہیں۔ نیز قُوَیس، ذُرَیع، حُرَیب، نُعَیل، عُرَیس اور ذُوَیْد بھی قیاس کے مطابق ان سب کے آخر میں تاء لوٹائی جانی چاہئے تھی۔

۲۔ مرکب اضافی کی تصغیر کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے جزء کی تصغیر بنا کر دوسرے جزء کو اس کی حالت پر رہنے دیا جائے، چنانچہ عبد اللہ کی تصغیر عبید اللہ ہوگی۔ مرکب بنائی کی تصغیر کا بھی یہی طریقہ ہے مثلاً معدی کرب کی تصغیر مُعَیدی کرب حضر موت کی حُضَیرَ موت نفطویہ کی نُفَیطویہ اور خمسۃ عشر کی خُمَیْسۃ عشر۔ مرکب اسنادی جیسے تابط شرا کی تصغیر نہیں آتی۔

ہمزہ کی کتابت

۱۔ اگر ہمزہ ابتداء میں واقع ہو تو ہمیشہ الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے أسماء، اکرام، اسی طرح اگر ابتداء میں کوئی دوسرا لفظ اس سے متصل ہو، جیسے بأجمل، لأفصل لیکن لئلا، لئن میں کثرت استعمال سے ہمزہ متوسطہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔

اگر ہمزہ وصل ہو تو فا اور واو کے بعد حذف کر دیا جاتا ہے بشرطیکہ بعد میں ہمزہ ہو جیسے فأتني و أذن لی میں۔

۲۔ اگر ہمزہ وسط میں ہو اور ساکن ہو تو اپنے ماقبل حرکت کے مطابق لکھا جائے گا، جیسے بَأْس، بُؤْس، بِئْس لیکن ہمزہ وصل کے بعد ہو اور بدلا ہوا ہو، پھر اثناء گفتگو میں اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا گیا ہے، تو جس حرف سے بدلا گیا ہو اس کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے یارجل ائذن، ھذا الذی اؤْتمنت علیہ۔

ہمزہ متوسطہ متحرکہ اپنے حرف کی حرکت کے مطابق لکھا جاتا ہے، خواہ اس سے پہلے حرف ساکن ہو یا متحرک جیسے لَـؤُمَ، رَؤُف، سَـأَلَ، یَسْأَلُ، مَسْأَلَۃ الخ ضمہ یا کسرہ کے بعد مفتوحہ نہ ہونے کی صورت میں ماقبل حرف کی صورت کے مطابق لکھا جاتا ہے جیسے سُؤَال، رِئَال وموٗنث۔

اگر ہمزہ الف و یاء کے درمیان واقع ہو تو ہمزہ یا یاء کی صورت میں لکھنا جائز ہے جیسے: بقاءِی یا بقائی، الراءِی یا الرائی۔

اگر ہمزہ الف اور ضمائر میں سے یاء کے علاوہ کسی اور کے درمیان واقع ہو، تو اگر مکسور یا مضموم ہو تو اپنی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں اور مفتوح ہو تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے بناؤُہ، بقائِہ، بقاءَہ

۳۔ اگر کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے حزءٌ، شیءٌ اور اگر ماقبل متحرک ہو، تو ماقبل کی حرکت کے حرف کے مطابق لکھا جاتا ہے، جیسے ھَیُؤَ، لکأَ، ظَمِیَٔ۔ اگر ہمزہ طرف میں واقع ہو اور تاء تانیث لاحق ہو، تو اگر اس کا ماقبل حرف صحیح ہو اور ساکن تو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے: نشأۃ اگر وہ متحرک ہو تو ماقبل کی حرکت کے مشابہ حرف سے لکھا جائے گا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جیسے فِئَة، لُؤْلُؤَة۔ لیکن اگر ماقبل معتل ہو، تو یا، کے بعد یاء کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور الف اور واو کے بعد ہمزہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے: خَطیئة، بریئة، قراءَة، صلاءَة، مروءَة، سوءة۔

ابدال

ابدال کسی حرف کو دوسرے حرف کی جگہ رکھنے کا نام ہے۔ ذیل میں ایسے کثیر الوقوع حروف دیئے گئے ہیں:

اگر الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو واوَ سے بدل جائے گا، جیسے ضُوْرِبَ، قُوتِلَ جو ضَارَبَ و قَاتَلَ کا مجہول کا صیغہ ہیں۔

اگر ضمہ کے بعد یاء ساکن واقع ہو تو واو سے بدل جاتی ہے، جیسے: مُوقِن، مُوسِر (أَيقَنَ اور ايَسَرَ سے)

اگر واو یا یاء متحرک ہو اور ماقبل مفتوح، تو واو یا یاء الف سے بدل جاتا ہے، جیسے: قَالَ، غزا، باع، رمی۔ پہلے دو باب نَصَرَ اور آخری دو باب ضَرَبَ سے ہیں۔ لیکن اس قاعدہ میں شرط یہ ہے کہ حرکت اصلی ہو اور اسی کلمہ میں فتحہ ہو، فَعِلَ یا اِفتَعَلَ کے عین کلمہ کی جگہ میں نہ ہو یا اسماء سے متعلق زیادتی پر ختم نہ ہو، اس کے بعد کوئی ایسا حرف نہ آئے جس کی اس سے تعلیل ہوتی ہو، اس کا مابعد متحرک ہو، اگر عین کلمہ ہو اور اس کے بعد الف یا یاء مشدّدہ نہ آئے اگر لام کلمہ ہو۔ اگر کسی کلمہ میں واو اور یاء اکٹھی آئیں اور ان میں پہلا ساکن ہو، تو واو یاء سے بدل جائے گی، جیسے طیّ، میّت، مرمّی، اصل میں طوْی، میْوت اور مرمُوی ہیں۔

اگر کسرہ کے بعد واو ساکن واقع ہو تو یاء سے بدل جاتی ہے۔ جیسے مِیزان، میقات (وزن، وقت سے)

کسرہ کے بعد ساکن حرف علت یاء سے بدل جاتی ہے، جیسے عصفور، مصباح جب ان کی تصغیر کی جائے یا تکسیر جیسے عصیفیر، مصیبیح۔

واو یا یاء اگر الف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہو تو ہمزہ سے بدل جاتے ہیں، جیسے کساء، سماء، بناء، ظباء۔

جو مدہ زائدہ مفرد میں ہو اگر فعائل وغیرہ کے الف کے بعد واقع ہو تو ہمزہ سے بدل جاتا ہے، جیسے عَجَائِز، قلائِد، صحائف جو عجوز، قلادہ اور صحیفہ کی جمع ہیں۔

جب واو یا یاء افتعل کی فاء واقع ہو تو تاء سے بدل جاتی ہے جیسے اِتّصل، اتسر (وصل، یُسر سے)

اگر دال، ذال یا زای کے بعد افتعل کی تاء واقع ہو تو دال سے بدل جاتی ہے، جیسے: ادّان، اذدکر، اذدان (دین، ذکر، زینة سے)

اِذْدَکَرَ وغیرہ میں ذال کو دال سے یا دال کو ذال سے بدلنا جائز ہے، جیسے اِدَّکَرَ، اِذَّکَرَ۔

اگر افتعل کی تاء صاد یا ضاد یا طاء یا ظاء کے بعد واقع ہو تو طاء سے بدل جاتی ہے، جیسے: اصطَبَرَ، اِضْطَرَبَ، اِطَّرَدَ، اظطلم (صبر، ضرب، طرد، ظلم سے) اظطلم وغیرہ میں ظاء کو طاء سے اور طاء ظاء سے بدلنا جائز ہے جیسے: اِطَّلَم، اظّلم۔

☆☆☆

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ا

۱۔ تلفظ: الأَلِف: اس کی دو قسمیں ہیں پہلی ساکن جیسے قام میں اسے لَیِّن کہا جاتا ہے دوسری متحرک جسے ہمزہ کہتے ہیں۔ حروف ابجد میں اس کا شمار ایک ہے۔ اس کے یعنی ہمزہ کے مندرجہ ذیل معنی ہیں:

۱۔ استفهام: أقرات؟ کیا تو نے پڑھا؟ اما قراتَ؟ کیا تو نے نہیں پڑھا۔ افَلَمْ تَقْرَأْ؟ کیا تو نے نہیں پڑھا؟ أفي البيتِ اخوك ؟ کیا گھر میں تیرا بھائی ہے۔

۲۔ نداء قریب: أزيدُ أقْبِل: اے زید آ۔

۳۔ تسوية: جس جملہ میں جس پہ وہ داخل ہوا سے مصدر میں تبدیل کرنے کا امکان پایا جائے جیسے: سواءٌ علّي اقمت أم قعدت: یعنی سواءٌ عليّ قيامُكَ و قعودُك: میرے لئے تیرا کھڑا ہونا یا بیٹھنا برابر ہے۔

۴۔ آ: حرف نداء بعید کے لئے یا جو اس کے زمرہ میں آتا ہو جیسے نائم (سونے والا) اور غافل

آب ا۔ شمسی سال کا آٹھواں مہینہ جولائی اور ستمبر کے درمیان: اگست: یہ ۳۱ دنوں کا ہوتا ہے۔

۲۔ الآب: عیسائیوں کے نزدیک اقنوم اول یعنی باپ، محترم باپ، پادری کا لقب اور اسے مخاطب کرنے کی شکل۔

ابّ: ا۔ اَبَّ ـُ ابًّا و أَبَابًا و أَبَابَةً وإبَابَةً اليه: کا مشتاق ہونا۔ کو چاہنا، کا خواہشمند ہونا۔ الأَب جمع اَوُب: سوکھی یا تر گھاس۔ الأباب: پانی۔ سراب۔

۲ أَبَّ ـِ أَبِيبًا وابًّا و ابابًا و ابابَةً: آمادہ ہونا، تیار ہونا۔ ـــ يَدهُ الي السيف: تلوار سونتنے کے لئے ہاتھ پیچھے کرنا۔ ـ ابَّهٗ: کے قصد کی طرح قصد کرنا، کسی کے ارادہ پر چلنا، کسی کی روش کو اپنانا۔ ائْتَبَّ: چیخنا۔ چلانا۔

تأبَّبَ به: پر تعجب کرنا، فخر کرنا، پر خوش وشاداں ہونا۔

۳۔ الأَبَّاتي: صدر راهب: راہبوں کا اعزازی رتبہ۔

○ اَبَّ إلي وطنه: اپنے وطن کا آرزومند ہونا، مشتاق ہونا، کی آرزو میں ہونا۔

ابا: أَبَا يَأبَاهُ بالسهم: کو تیر سے مارنا

ابت: أَبَتَ ـِ وأَبِتَ ـَ أَبْتًا و اُبُوتًا النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ صفت: أَبُتٌ وأَبِتٌ وابِتٌ۔ تَأَبَّتَ الجمرُ: انگارے کا بھڑکنا، دہکنا، تیز ہونا۔ أُبْتَةُ الغضبِ: غصہ کی تیزی وتندی۔

ابجد: أَبُجَدُ: لغت عرب میں آٹھ مشہور کلمات کا پہلا کلمہ جن میں حروف ہجا جمع کر دیئے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں: ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ اس ترتیب میں حساب جمل کی رعایت رکھی گئی ہے اور تاریخ اکثر انہی کے لحاظ سے نکالی جاتی ہے۔ ان میں عدد کا شمار اس طرح کیا گیا ہے کہ پہلے اکائیاں پھر دہائیاں پھر سینکڑے اور ان کے بعد ہزار ہیں۔ نقشہ ذیل ملاحظہ ہو:

ا	۱	ح	۸	س	۶۰	ت	۴۰۰
ب	۲	ط	۹	ع	۷۰	ث	۵۰۰
ج	۳	ی	۱۰	ف	۸۰	خ	۶۰۰
د	۴	ک	۲۰	ص	۹۰	ذ	۷۰۰
ه	۵	ل	۳۰	ق	۱۰۰	ض	۸۰۰
و	۶	م	۴۰	ر	۲۰۰	ظ	۹۰۰
ز	۷	ن	۵۰	ش	۳۰۰	غ	۱۰۰۰

ابد: ا۔ أَبَدَ ـِ اُبُودًا الشاعر: شاعر کا ایسے مشکل اور غریب الفاظ لانا جن کے معنی کا پتہ نہ لگے۔ الآبِدة جمع أَوَابد: عجیب وغریب شے۔ اَوَابِدُ الكلام: حیرت انگیز کلام۔ اَوَابِدُ الشعر: جس کی ندرت میں مثال نہ مل سکے۔) بڑی مصیبت وآفت جس سے انسان گھبرائے۔

۲۔ اِبِدَ ـَ ابَدًا: وحشی وجنگلی ہونا۔ أَبَدَ ـِ اُبُودًا الحيوانُ: جانور کا جنگلی اور وحشی ہونا۔ تأبَّدَ: وحشی اور جنگلی ہونا۔ المكانُ: جگہ کا ویران اور غیر آباد ہونا، جنگلی جانوروں کا مسکن اور قرارگاہ بننا۔ الآبِدَة جمع اَوَابد: وحشی۔

۳۔ أَبَدَ ـِ اُبُودًا بالكان: کسی جگہ ٹھہرنا ابَّدَهٗ: کو ہمیشہ رکھنا۔ تَأبَّدَ: ابدی ہونا۔ الأٰبِدَة جمع أَوَابِد: ہمیشہ یاد رکھی جانے والی مصیبت۔ أوَابِدُ الدُنيا: دنیا کے مصائب وآلام۔ الأَوَابِد: وہ پرندے جو سرما و گرما کے موسموں میں ایک ہی جگہ رہیں۔ قَوَاطِع کی ضد۔ الأَبَد جمع آبَاد و أبود: زمانہ قدیم، ازلی، ہمیشہ رہنے والا، کہا جاتا ہے: لا آتيه أَبدا الأَبَدين و الآبدين وأَبَدَ الأبد و أبَدَ الآباد و ابَدَالدهر: میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ أَبَداً: ظرف زمان جو مستقبل میں نفی واثبات کی تاکید کیلئے آتا ہے۔ جیسے: لا أفعله ابدا او افعله ابدا: میں اس کو ہرگز نہیں کروں گا، یا اس میں اس کو ضرور کروں گا الأبدی: جس کی انتہاء نہ ہو۔ ابدی۔ الأَبديَّة: ہمیشگی، دوام جس کی انتہاء نہ ہو۔ آخرت

۴۔ ابِدَ ـَ أبَدًا عليه: پر غصہ ہونا، غضبناک ہونا۔

○ ابَدَ ـِ اُبودًا ب: کسی جگہ ٹھہرنا، دیر تک رہنا ـــ ـُ: (جانور شکار کا) وحشت میں مارے مار پھرنا، شتر بے مہار ہونا، بھڑکنا، بدکنا، بھاگنا ابَّدَه: کو پائیدار یا مستقل بنانا، باقی رکھنا، قائم رکھنا، ابدی بنانا۔ تَأبَّدَ: ابدی ہونا، پائیدار یا مستقل ہونا، وحشت میں لوٹ آنا۔ ابَد جمع آباد: دائمی غیر مختتم دوران یا مدت،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

دوام، ابد، ابدیت، بڑالمبا عرصہ۔ آخرت۔ اَبَدًا: ہمیشہ، کبھی نہیں، علی الابد، اِلی الأبد اور ابدَ الدھر ہمیشہ۔ أبَدَ الابدین اور إلی ابدا الابدین ہمیشہ۔ أبِدی: دائمی، مستقل ابدی، غیر مختتم الابدی: ابدیت، ابد، دوام ابدیة: دوام، ابد، ابدیت، غیر مختتم وقت، لامتناہی دوران یا مدت آبِد: جنگلی، وحشی۔ آبِدَة جمع اَوَابِد: غیر معمولی چیز، حیرت انگیز واقعہ۔ اَوَابِدُ الدنیا: عجائبات عالم۔ مُؤَبَّد: دائمی، ابدی، لانہائی، ہمیشہ رہنے والا، لازوال، سِجْنٌ مُؤَبَّدٌ: عمر قید۔

ابر ۱۔ اَبَرَ ــُـ اَبْرًا و اِبَارًا ہٗ: کو سوئی کھلانا۔ ابَرَتِ العقربُ فَلَانًا: بچھو کا کسی کو ڈسنا، کسی کی غیبت کرنا، کو ہلاک کرنا، الأَبَّار: سوئیاں بنانے والا، سوئیاں بیچنے والا، پسّو۔ الإبْرَة جمع اِبَر و اِبار و اِبَرات: سوئی (کپڑے سینے کی)، شُغلُ الإبْرَة: سوزن کاری۔ ابرة مِغْنَطِيسية: مقناطیسی سوئی، جو شمال کی سمت کا تعین کرتی ہے (ح) کسی کیڑے، بچھو یا مکھی کا ڈنک، جسے الحُمة کہتے ہیں۔ ابرةُ القَرْن: سینگ کا سرا، چغلی۔ الإبْرِی: سوئیاں بیچنے والا۔ المِئبَر والمِئبَار: سوئی دانی (Needle case)، درختوں میں قلم لگانے کی چھری المِئبَرة جمع مَآبِر: چغلی۔

۲۔ أَبَرَ ــِـ أَبْرًا و اِبارًا الزرعَ (ز): (کھیتی کی) اصلاح کرنا، گابھا دینا، قلم لگانا الأَبَّار: کھجور کے درخت کو گابھا دینے والا، قلم لگانے والا۔ المِئبَر: درختوں میں قلم لگانے کی چھری۔

۳۔ اِئْتَبَرَ البئرَ: کنواں کھودنا۔

۴۔ الأَبْرَشِيَّة والأبروشِيَّة: بشپ کا ماتحت علاقہ یا وہ اشخاص جو اس کی ماتحتی میں ہوں۔ (یونانی لفظ)

۵۔ الإبْرِيز والإبْرِيزِی: خالص سونا (یونانی لفظ)

۶۔ الإبْرِيسِم والإبْرِيسَم: ریشم (فارسی لفظ)

۷۔ الإبْرِيق جمع اَبَارِيق: لوٹا، چھاگل۔

۸۔ اَبْرِيل: اپریل (چوتھا مہینہ شمسی سال کا) اسے نیسان بھی کہتے ہیں۔ (لاطینی لفظ)

○ اَبَّــر ہ: کھجور کے درخت پر زرگل چھڑکنا اور اسے زرخیز بنانا۔ اِبْرَة جمع اِبَر: سوئی، پن، سوئی، بتانے والا آلہ Indicator، انجکشن، ڈنک، کانٹا، خار، آر۔ حَقَنَهُ اِبْرَةً: کو انجکشن لگانا یا دینا اِبْرَةُ الراعی: ایک جنگلی درخت جس میں سارس کی چونچ جیسا پھل آتا ہے۔ ایک پھول کا پودا۔

ابز: ۱۔ اَبَزَ ــِـ اَبْزًا و اُبوزًا الظبیُ: ہرن کا کودنا، دوڑنا صفت: آبِز و اَبَّاز و اَبُوز اَبَزَ ــِـ اَبْزًا بصاحبه: ساتھی پر ظلم کرنا۔

۲۔ الإبْزِيم والإبْزَام جمع اَبَازِيم: بکسوا کہا جاتا ہے: أنشب الابزیمَ: بکسوا لگانا، بکلس لگانا۔

○ اِبزِيم جمع اَبَازِيم: بکسوا، بکلس، پکڑ، گرفت۔

ابش: أَبَشَ ــُـ أبْشًا ہٗ: کو جمع کرنا اَبَّشَہٗ: کو جمع کرنا، تَأَبَّشَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا۔ الأُبَاشَة من الناس: مخلوط جماعت۔

ابض: أَبَضَ ــُـ اَبْضًا البعيرَ: اونٹ کے اگلے پاؤں کو پچھلے پاؤں سے باندھنا۔ تَأَبَّضَ البَعيرَ: کو رسی سے باندھنا۔ ــــ البعیرُ: رسی سے بندھا ہونا۔ الأُبْض جمع آباض (ع ا): زانو کا اندرونی حصہ، پشت ران، پٹھا۔ الإباض: اونٹ کو باندھنے کی رسی۔ المَأبِض (ع ا): زانو کا اندرونی حصہ۔

○ اُبْض جمع آبَاض ومَأبِض جمع مَآبِض: گھٹنے کا اندرونی حصہ۔

ابط: تَأَبَّطَ الشیَٔ: کو بغل کے نیچے رکھنا۔ الإبْط جمع آباط (ع ا) بغل (مذکر و مونث)، اِبْطُ الجبل: دامن کوہ۔ الاباط: بغل میں دبائی ہوئی چیز۔

○ تَأَبَّطَ ہ: بغل میں لینا یا لیجانا، ــــ ہ یا ہ: کے گرد بازو رکھنا، کو بازو میں لینا، رکھنا، پکڑنا۔

ابق: اَبَقَ ــُـ و اَبِقَ ــَـ اِبَاقًا و اَبْقًا و اَبَقًا العبدُ: غلام کا آقا کے پاس سے بھاگ جانا صفت: آبِق ج اُبَّق و اُبَّاق۔ تَأَبَّقَ: چھپنا۔ ــــ الشیَٔ: کا انکار کرنا، کو اوپرا سمجھنا، نا آشنا سمجھنا۔

○ اَبَــق: پٹ سن، سن جس کے ریشے سے کپڑا اور ٹاٹ بنایا جاتا ہے۔ آبِق: بھگوڑا۔

ابل: ۱۔ اَبَلَ ــُـ اَبَالَةً و اَبِلَ ــَـ اَبَلًا: اونٹوں کا اچھی طرح انتظام کرنا، اونٹوں کی دیکھ بھال میں مہارت دکھانا، صفت اَبِل و آبِل جمع اُبَّال۔ اَبَّلَ: بہت اونٹوں والا ہونا ــــ الإبلَ: اپنی ملک میں بہت اونٹ رکھنا، بہت اونٹوں کا مالک ہونا۔ تَأَبَّلَ الإبِلَ: اونٹوں کو چھانٹ کر جمع کرنا۔ الإبْل و الإبِل جمع آبال: اونٹ (یہ لفظ جمع کے معنی دیتا ہے اس کا مفرد مستعمل نہیں)۔ المَأبلة: بہت اونٹوں والی زمین۔

۲۔ الإبَالة: جماعت، گروہ، دولت کا اچھا انتظام اور حسن سیاست۔ الأبَابِيل: غول، فرقے، گروہ، جھنڈ۔ اس کا واحد نہیں۔ طیرٌ ابابیل: غول کے غول پرندے الأُبُلَّة: قبیلہ کہا جاتا ہے: جاءَ فی اُبُلَّتِہ: وہ اپنے قبیلہ میں آیا الأبِيلة و الإيبالة والإبَّالة: گھاس یا لکڑیوں کا گٹھا۔ کہا جاتا ہے: ضِغْثٌ علی اِبَّالةٍ: [illegible]

۳۔ اَبَلَ ــُـ اَبَالةً: راہب بننا۔ الأبِيل جمع آبال و اُبْل و الأَبِيلِیّ و الأُبِيلِیّ: راہب۔

۴۔ اِبْلِيس جمع اَبَالِيس و اَبَالِسة: شیطان کا علم جنس۔

○ اِبَالة و اِبَّالة گٹھا، گانٹھ، پلندا، گٹھری، گٹھڑ، پوٹلی۔

○ اِبْلِيز: (دریائے نیل کے) زرخیز تہ نشین مادے۔

○ اِبْلِيس جمع اَبَالِسَة: شیطان، ابلیس، بھوت، جن، خناس، آسیب، عفریت۔

ابن: ۱۔ اَبَنَ ــِـ اَبْنًا ہٗ بشیٍٔ: پر کا عیب لگانا۔ ــ الدمُ فی الجرح: خون کا زخم میں سیاہ ہو جانا۔ اَبَّنَہٗ: پر عیب لگانا، کو عار و شرم دلانا۔ الأُبْنَة جمع اُبَن: عیب، کینہ۔

۲۔ اَبَّــنَــہٗ: کی موت کے بعد اس کے محاسن اور خوبیاں گنانا، مرثیہ کہنا۔ التَأْبِين: مرنے والے کے محاسن اور خوبیوں کا اظہار، مرنے والے کی یادگار منانا۔ حفلةُ تأبين: مرنے والے کے اعزاز میں یادگار تقریب۔

۳۔ اَبَّنَہٗ و تَأَبَّنَہٗ: کے نقش قدم پر چلنا، کے پیچھے لگنا، کا انتظار کرنا، اِبانةُ الرجُلِ: آدمی کے سب ساتھی۔

۴۔ الإبْن: دیکھو ب ن ی۔ الأُبْنَة جمع اُبَن: لکڑی کی گرہ یا گانٹھ، پاؤں کی انگلیوں کی گانٹھ جسے لوگ "مسمار" کہتے ہیں۔ اِبَّانُ الشیِٔ: کسی چیز کی ابتداء یا وقت۔ کہا جاتا ہے: ھو فی اِبّانِ شبابه: وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ہے۔

۵۔ الأبْنُوس و الآبنوس (ن): درخت کی ایک قسم جس کی لکڑی سخت و سیاہ ہوتی ہے۔

○ اَبَّــن ہ: مرنے والے کی یادگار منانا، تعریف کرنا، مدح کرنا، مرنے والے کی تعریف میں اس کی تجہیز و تکفین پر تقریر کرنا۔ اِبَّان: وقت۔ اِبَّان: کے دوران۔ فی اِبَّانِ: کے وقت، کے دوران مَأبُون: لونڈا، مفعول، مرِیل۔ زنانہ مرد، یا لڑکا زنانہ، زنانہ صفت، نامرد۔

ابہ: اَبَہَ ــَـ اَبْهًا لہٗ: کو تاڑ جانا۔ کو سمجھنا لایُؤْبَہُ لہٗ: اس کی طرف توجہ و التفات نہیں کی جاتی۔ اَبَّہَہٗ: کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا، سمجھانا۔ تَأَبَّہَ عن کذا: اپنے کو کسی سے بالا و برتر سمجھنا الأُبَّهَة و الأُبْهَة: بڑائی، تکبر، نخوت۔

۲۔ تَأَبَّہَ علیہ: پر تکبر کرنا، سے بڑا بننا الأُبَّهَة و الأُبْهَة: بڑائی۔

○ اَبَہَ و اَبِہَ ــَـ اَبْهًا لِ نیز ب: پر توجہ دینا، کی طرف توجہ کرنا، پر کان دھرنا، کی پروا کرنا۔ امرٌ لا يُؤْبَہُ لہ: ایک غیر اہم معاملہ۔ تَأَبَّہَ: متکبرانہ اخلاق و عادت ظاہر کرنا یا ان کا مظاہرہ کرنا۔ ــــ عن: سے بچنا، سے فاصلہ رکھنا، سے الگ تھلگ رہنا، کو نظر حقارت سے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دیکھا، اپنے کو کسی شخص یا چیز سے بالاتر سمجھنا۔ اُبَّهَة: شان و شوکت، دکھاوا، تکبر، طمطراق، دھوم دھام۔

ابا: اَبَ ـُ اِبَاوَةً و اُبُوَّةً و اُبُوًّا: باپ ہونا۔ ـ ہ: کی باپ کی بیٹے جیسی دیکھ بھال کرنا، کی پرورش کرنا کہا جاتا ہے: ابو تُهُ وَ اَمَمْتُهُ: میں اس کے لئے بمنزلہ ماں باپ کے ہو گیا۔ اَبَّى فلانًا: سے کہنا کہ میں اپنے باپ کو تم پر فدا کرتا ہوں۔ تَأَبَّى فلانًا: کو باپ بنانا۔

الآب عند المسيحيين: عیسائیوں کے نزدیک اقنوم اول، جس کو وہ باپ کہتے ہیں۔ الأَب جمع آباء و اُبُون: والد، کسی چیز کو ایجاد کرنے یا اس کی اصلاح کا باعث، حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یاء کے ساتھ آتا ہے: جیسے جاء ابوك (تمہارا باپ آیا) رأيتُ اباكَ (میں نے تیرا باپ دیکھا) مررتُ بابيك (میں تیرے باپ کے پاس سے گزرا)۔ منادی کی صورت میں کہتے ہیں: يا ابي، يا ابتِ (اے میرے باپ) کہا جاتا ہے۔ لا اَبَ لكَ ولا اَباكَ و لا ابكَ یہ اس شخص کی تعریف یا گالی کے طور پر جس کا باپ ہو یا نہ ہو کہا جاتا ہے۔ معنی ہے: تیرا باپ مرے۔

بأبي انت: میرا باپ تجھ پر فدا ہو۔

أبُوا اليقظان: مرغ۔

ابو اياس: ہاتھ منہ دھونے کی چیز جیسے خطمی وغیرہ ابو أيُّوب: اونٹ۔ ابو الايرد: گدھ۔ ابو الأسْوَد: چیتا۔ ابو الاصبح: گدھا۔ ابو الاضياف: میزبان ابو بَرِيص: چھپکلی۔ ابو البَشَر: حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت۔ ابو ثقيف: سرکہ۔ ابو جامع: دسترخوان۔ ابو حجاوة: ٹڈی۔ ابو جعاد: الّو۔ ابو جعران: گبریلا۔ ابو جميل: ترکاری۔ ابو حبيب: بھنا ہوا بکری کا بچہ ابو حُدَيج: لقلق۔ ابو حذر: گرگٹ۔ ابو حصين: لومڑی۔ ابو خان: کتا۔ ابو خِصيب: گوشت ابو دغفاء: بیوقوف۔ ابو رزين: ایک قسم کا حلوا۔ ابو رعلة: بھیڑیا ابو زاجر: کوا۔ ابو زُهْرة: گیدڑ۔ ابو سليمان: مرغ۔ ابو السرو: نجور۔ ابو عذرا المرأة: شوہر۔ ابو عِسْلَة: بھیڑیا۔ ابو عُقْبَة: سور ابو العَلاء: فالودہ۔ ابو العفاء: گدھا ابو عوف: ٹڈی۔ ابو عون: نمک ابو غزوان: بلی۔ ابو قِتْرة: ابلیس کی کنیت۔ ابو قُرَّة: گرگٹ۔ ابو كُلاة: نر بجو۔ ابو لاحق: باز۔ ابو لُبَد: شیر۔ ابو مالك: بھوک، بڑھاپا، گدھا۔ ابو مَثْوَى: میزبان۔ ابو مُرَّة: شیطان۔ ابو مَذْقَة: بھیڑیا۔ ابو مُرَّة: شیطان ابو مريم: قاضی کا پیادہ۔ ابو مِنْهال: گدھ۔ ابو مشغول: نر چیونٹی ابو مَرينا: مچھلی۔ ابو معاوية: چیتا۔ ابو المُنْذِر: مرغ۔ ابو نعيم: روٹی۔ ابو الوثّاب: عقاب۔ اور بقول رازی "ہرن" ابو هُبَيْرة: نر مینڈک۔ ابو يَحْيَى: ملک الموت۔

○ اَب جمع آباء: باپ۔ آباء و اجداد، باپ دادا، گزشتہ نسلیں، اسلاف، مورث اعلیٰ۔ الاَبَوَان: ماں باپ، والدین۔ ابونا: مقدس باپ (پادری کا لقب اور اس کو مخاطب کرنے کی شکل) اَبًا عن جدٍّ: باپ سے بیٹے کو ملی ہوئی، آباء و اجداد سے ترکہ یا ورثہ میں ملی ہوئی۔ ابو سُعْن: مغربی افریقہ کا سارس یا لقلق۔ ابو النوم: خشخاش، پوست، کوکنار، افیون کا پودا۔ ابو الهول: قدیم مصر کا ایک بت جس کا سر آدمی کا اور بدن شیر کا تھا۔ اُبُوَّة: باپ ہونا، ابو بيت: ولدیت۔

اَبَوِي: باپ کا، باپ کی طرف سے، پدرانہ۔

○ ابو نيت: (Ebonite) گندھک ملا کر سخت کیا ہوا سیاہ ربڑ۔

اَبُو نِيه جمع ابونيهات: چندہ، چندہ کا کارڈ۔

ابی: اَبَى ـِ اِبَاءً و اِبَاءَةً و تَأَبَّى الشَّيْءَ: کو ناپسند کرنا، کو مکروہ جاننا، سے ناخوش ہونا، صفت: آبٍ جمع آبُون و اُباة و اُبَّاء واحد آبِية اَبِي الشيءَ عليه: کو سے روکنا۔ اَبِيَ عليه: سے رکنا۔ تَأَبَّى: سے رکنا، باز رہنا، آباه اِيباءً الشيءَ: کو سے روکنا، الأَبِيّ: واحد اَبِيَّة: نفرت کرنے والا، کمینہ باتوں سے اپنے آپ کو بلند رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے: نفسٌ أبِيَّة: خوددار، کمینہ باتوں سے اپنے آپ کو بلند رکھنے والا شخص یا نفس۔ اَبَّاء: خوددار۔ رجل اَبَّاء: خوددار مرد۔

○ اَبَى ـَ اِبَاءً و اِبَاءَةً: انکار کرنا، مسترد کرنا ـ ہ: کو مسترد کرنا، کو حقیر سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا۔ ـ على ه: کو کوئی چیز نہ دینا۔ اَبَى اِلَّا ان يفعله: اس نے اسے کرنے پر اصرار کیا۔ ابى اللّٰهُ اِلّا أن: خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ــ تَأَبَّى: انکار کرنا، مسترد کرنا۔ اِبَاء و اِبَاءَة: استرداد، نامنظوری، ناپسندیدگی، نفرت، کراہت، بیزاری، حقارت، تحقیر، غرور، تکبر، نخوت۔ اَبِي: حقارت آمیز، حقیر یا برا جاننے والا مغرور، متکبر، بہت اونچا، اونچے ذہن کا۔ آبٍ جمع اُبَاة: کم آمیز، روکھا، خشک، ناراض مند، غیر آمادہ، بیدل، کینہ رکھنے والا۔

ابيب: گیارھواں مہینہ (قدیم مصر کے مسیحیوں کی نسل کی [illegible]

○ اَبِيقُورِي: جویائے سرور، لذت طلب۔ اَبِيقُورِيَة: لذت طلبی۔

اتب: ا۔ تَأَتَّبَ وائْتَتَبَ: بے آستین والی قمیص پہننا۔ الإتْب جمع اُتُوب و آتُب و اِتَاب و آتاب: بے آستین کی قمیص۔

۲۔ أتابك: امیر، سردار۔ یہ لفظ دراصل بادشاہوں کی اولاد کے اتالیقوں پر بولا جاتا تھا (ترکی لفظ)

اتد: الإتاد: جمع آتِدة و اُتُد: دودھ دوہنے کے وقت گائے کی ٹانگ باندھنے کی رسی۔

اترج: الأُتْرُج و الأُتْرُنج: واحد الأُتْرُجَّة و الأُتْرُنجة (ن): چکوترے کا درخت (اسے التُّرُنج بھی کہا جاتا ہے جبکہ عام لوگ اسے الكَبَّاد کہتے ہیں)۔ چکوترہ۔

○ آتِشْجِي: آگ بجھانے والا، کوئلہ دان، زغال دان۔

اتل: أتَلَ ـِ اَتَلًا و اَتَلانًا و اَتَلالًا: غضب میں چھوٹے چھوٹے قدم چلنا۔

اتم: اَتَمَ ـُ اَتْمًا: دو چیزوں کو جمع کرنا۔ ــ بالمكان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا، دیر کرنا۔ المَأْتَم جمع مَآتِم: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اس لفظ کا اطلاق بیشتر اس مجمع پر ہوتا ہے جو اظہار غم کے لئے ہو۔

اتن: اِسْتَأْتَنَ: گدھی خریدنا۔ گدھی ہونا۔ كان حمارًا فاستأتن: وہ گدھا تھا پھر گدھی ہو گیا۔ یعنی وہ عزت دار تھا پھر ذلیل (کمینہ و حقیر) ہوا۔ الأَتان جمع اُتُن و اُتْن و آتُن: گدھی۔

۲۔ الأَتُّون جمع اُتُن و اَتَاتِين: حمام کا چولہا۔ چونا بنانے کی بھٹی۔ اسے اتون الكلس بھی کہتے ہیں۔

○ اَتُّون جمع اُتُن و اَتَاتِين: آوا، تنور، بھٹی۔

اتا: ا۔ اَتَا ـُ اُتُوًّا و اِتَاءً الشجرُ: درخت میں پھل آنا، لگنا، بہت پھل لگنا۔ اِتَاءُ الأرض: زمین کی پیداوار یا روئیدگی۔ الإتاوة جمع اَتَاوَى: خراج۔

۲۔ اَتَا ـُ به و عليه: کی چغلخوری کرنا۔ الإتاوة جمع اَتَاوِي: رشوت۔ اَتَوْتُهُ اِتَاوَةً: میں نے اس کو رشوت دی۔

○ اِتَاوَة جمع اَتَاوَى: محصول، ٹیکس، خراج، باج۔

○ اتوبيس: بس، آٹو بس (موٹر بس)۔

○ اَتُومَاتِيكِي: خودکار، خود حرکی، آپ چالو (Automatic)۔

اتى: ا۔ اَتَى ـِ اِتْيَانًا و اَتْيًا و اِتْيَانَةً و مَأْتَاةً: آنا۔ ــ المكانَ: کسی جگہ حاضر ہونا۔ ــ الرجلَ: کے پاس سے گزرنا۔ اِسْتَأْتَى الرجلَ: کو سست سمجھنا۔ سے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

آنے کی درخواست کرنا۔ الأتِيّ و الأتاوِيّ: پردیسی، اجنبی، مسافر۔ سیلٌ اتیّ و أتاوِيّ: انجان جگہ سے آجانے والا سیلاب۔ المَاتي و المَاتاة: سمت، جہت، کہا جاتا ہے: أتى الأمرَ من ماتاه او ماتاته: اس نے وہ کام اس کے ڈھب اور طریقہ سے کیا۔

۲۔ أتي ـِ الشيءَ: کسی چیز کو کرنا۔ — علی الشيء: کو پورا کرنا، جاری و نافذ کرنا، اس کے آخر تک پہنچنا۔ أتي عليه الدهرُ: کو زمانہ نے ہلاک کر دیا۔ أتّى تأتِيَةً و تَأتِّيًا الماءَ: پانی کے بہاؤ کے لئے راستہ نکالنا۔ آتى مُؤاتاةً ه علی الشيء: سے پر موافقت کرنا۔ — إيتاءً اليه الشيءَ: کو کوئی چیز بھیجنا، کے کوئی چیز حوالے کرنا۔ — الرجلَ: کو بدلہ دینا، کے ساتھ چلنا (اگر یہ جا رہا ہے)۔ — فلانًا لشيءٍ: کو کوئی چیز دینا۔ اسی سے ہے: آتِنا غداءَنا: ہمیں ہمارا ناشتہ دے، دوپہر کا کھانا دے۔ تَأتّى الأمرُ: تیار ہونا، آسان ہونا۔ — للأمر: کی طرف مائل ہونا، کے لئے تیار ہونا۔ — لمعروفه: کے درپے ہونا۔ — له: کو پیش آنا۔

○ اَتى ـِ إتيانًا و اتيًا ومأتاةً ه یا الی: کے پاس آنا۔ — علی: کو اتفاقاً ملنا۔ — ه یا الی: کسی جگہ پہنچنا۔ اتی به: کو لانا، آگے لانا، آگے بڑھانا، وجود میں لانا، بنانا، تخلیق کرنا، کو انجام دینا، بجا لانا، پورا کرنا۔ — ه ب: کو کوئی چیز دینا، پیش کرنا، — ه کو کرنا، بجا لانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کی تکمیل کرنا، (گناہ، جرم) کا ارتکاب کرنا۔ — علی: کا ذکر کرنا، کو ہلاک کرنا، تباہ کرنا، کو ختم کرنا، مکمل کرنا، کی تکمیل کرنا، کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، جڑ سے اکھیڑنا، کا استحصال کرنا، کا قلع قمع کرنا، کو دھو ڈالنا، کو خارج کرنا، نکال دینا، کو رو میں بہا لیجانا، لیجانا، کو موقوف کرنا، منسوخ کرنا، سے پیچھا چھڑانا، پر جامع یا مکمل بحث کرنا، کو مکمل طور پر پیش کرنا، بالتفصیل پیش کرنا، کو تفصیل سے بیان کرنا۔ کما یاتی: جیسے کہ ذیل میں درج ہے۔ اتی علی آخره: کو مکمل کرنا، ختم کرنا، کو آخر تک خرچ کرنا یا استعمال کرنا، اتی علی الاخضر و الیابس ہر چیز تباہ کر دینا، تباہی مچانا، اتی البیوت من ابوابها پر صحیح طریقے سے غور کرنا، صحیح دروازہ کھٹکھٹانا۔ یُوتی مِن قِبَلِ (کی وجہ سے) اس کی جڑیں اندر ہی اندر کھوکھلی کی جا رہی ہیں، کمزور کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے۔ آتی ه ب کو کوئی چیز پیش کرنا، مہیا کرنا، دینا، بہم پہنچانا۔ — ه کے لئے مبارک، مسعود یا نیک شگون والا ہونا، مناسب حال ہونا، کے موافق ہونا، کی مدد کرنا، سے ہمدردی کرنا، کے لئے اچھا ہونا، کی تائید میں ہونا، کے لئے موزوں ہونا، مناسب ہونا (خوراک کا) کسی کو موافق آنا، راس آنا۔ اتاهُ کُلُّ شيءٍ: ہر چیز اس کی تائید میں تھی، کیلئے اچھی نکلی، اسے پیش آئی۔ آتی ه ه: کے پاس کچھ لانا، کو کچھ دینا، عطا کرنا، آتی الزكاةَ: زکوۃ دینا تأتّى عن: سے وجود میں آنا، نکلنا، مشتق ہونا، پیدا ہونا، کا نتیجہ ہونا۔ — الی: تک جانا، پہنچنا، — : کا کرنا آسان ہونا، کسی مشکل کے بغیر قابل عمل ہونا، قابل حصول ہونا، ترقی کرنا، اطمینان بخش ہونا۔ — فی: کو احتیاط یا نرمی سے کرتے رہنا۔ استاتی ه: کو آنے کے لئے کہنا، کو آنے کی ترغیب دینا۔ مَأتىً جمع مآتٍ: آنے کی جگہ، پہنچنے کی جگہ، راستہ، راہ، وسیلہ، سبیل، رسائی، پہنچ، رسائی کا ذریعہ، گزرنے کا حق یا ذریعہ، دسترس جمع مَآتٍ: اصل، اصل مقام منبع، سرچشمہ، ماخذ، مقام ساخت، مقام پیدائش، وہ جگہ جہاں کوئی رہا ہو یا آیا ہو، وہ جگہ جہاں کسی چیز کا آغاز ہو، یا جہاں وہ ختم ہو۔ — آتٍ: آنے والا، آئندہ، ذیلی، ذیل کا الاسبوع الآتي: آئندہ ہفتہ۔ کالآتی: حسب ذیل مُؤآت و مُواتٍ: موافق، مفید، مفید مطلب، امید افزا، مناسب حال، سازگار، سعید، مبارک، مسعود، ٹھیک، درست، مناسب، موزوں، بروقت، برمحل، آسان، معقول آرام دہ، مناسب موقع۔

اث: أثَّ ـِ أثًّا و أثُوثًا و أثاثةً النباتُ او الشعرُ: پودوں یا بالوں کا گنجان اور گھنا ہونا، بکثرت ہونا۔ صفت: أثٌّ و أثِيثٌ جمع إثاث۔ أثَّث الفراشَ: بستر بچھانا، تیار کرنا — البیتَ: گھر میں نیا فرنیچر لگانا، گھر کو فرنیچر سے آراستہ کرنا۔ تأثّث: مالدار ہو جانا، فرنیچر لگنا، خوش حالی نصیب ہونا۔ الأثاث فرنیچر۔ مال و دولت، ساز و سامان، ساز و یراق۔

○ اثّ ـِ أثاثةً (بالوں، پودوں کا) بافراط ہونا، بکثرت اگنا۔ أثّث ه کو تیار کرنا، لگانا، (کمرہ میں) فرنیچر لگانا، کمرہ کو فرنیچر سے آراستہ کرنا۔ تأثّث امیر یا دولتمند ہونا یا ہو جانا، اقبال مند ہونا، پھلنا پھولنا، فرنیچر سے آراستہ ہونا۔ أثاث: فرنیچر، ساز و سامان ساز و یراق۔ تأثیث: فرنیچر لگانا، فرنیچر سے آراستہ کرنا۔ أثٌّ و أثِيثٌ: بافراط، بکثرت اگنے والے (پودے، بال)۔

اثر: ۱۔ أثَرَ ـُ أثْرًا و أثارةً و أثْرةً الحديثَ: حدیث [illegible] یا نقل کرنا [illegible]: السيفُ المأثور: قدیم اور موروثی تلوار الأثر: جمع آثار: کسی چیز کا اثر و نشان۔ سنت، حدیث، علمُ الآثار عند المسلمين: اگلی قوموں کی چھوڑی ہوئی یادگاروں کی معرفت مثلاً ان کے مکانات، مجسمے اور سکے۔

۲۔ أثَرَ ـُ أثْرًا و أثارةً و أثْرةً و آثر إيثارًا ہ: کا اکرام و احترام کرنا۔ الأثارة و الأثرة جمع أثر و المأثُرة و المأثَرة جمع مآثر: موروثی شرافت و بزرگی، اچھا فعل۔ الأثير جمع أثراء: باعزت و باشرف۔ رجلٌ أثير: باعزت و باشرف آدمی۔

۳۔ أثِرَ ـَ أثَرًا عليهم: اوروں کو نظر انداز کر کے اپنے لئے بہترین چیزیں چھانٹ لینا۔ آثر ایثارا ه: کو پسند کرنا، فضیلت و برتری دینا۔ إستأثر بالشيء على الغير: دوسرے کے مقابلہ میں اپنے لئے کوئی چیز مخصوص کر لینا۔ کسی چیز میں خود کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ الأثَرة: پسندیدگی، دوسرے کے مقابلہ میں اپنے لئے بہترین چیز پسند کرنا۔ خود کو دوسرے پر ترجیح دینا، انتہائی خود پسندی و خود غرضی۔

۴۔ أثِرَ ـَ أثَرًا على الأمر: کا پکا ارادہ کرنا — للأمرِ: کسی کام میں یکسوئی کے ساتھ لگ جانا۔ — يفعلُ كذا: کو کرنے لگنا۔

۵۔ أثّر فيه: میں اثر چھوڑنا، پر اثر انداز ہونا۔ آثر ایثارًا كذا بكذا: کے ذریعے کے پیچھے لگنا۔ تأثّر و إئتثر منه وبه: سے متاثر ہونا، میں کا اثر پہنچنا صفت: متأثِّر۔ — فلانًا: کے نشان قدم پر چلنا، کی پیروی کرنا۔ الأثر جمع آثار و أثور: کسی چیز کا اثر و نشان۔ (علم الآثار: اگلی قوموں کی چھوڑی ہوئی یادگاروں کی معرفت جیسے مکانات، مجسمے، حنوط کی ہوئی چیزیں اور سکے وغیرہ۔ الأثری: آثار قدیمہ کا ماہر۔ لغة اثرية: آثار قدیمہ میں شمار زبان۔ — والإثر کہا جاتا ہے: خَرَجَ في أثَرِه وفي إثْرِه: وہ اس کے بعد نکلا۔ على الأثر: فوراً اور فی الحال۔) نشان۔ جیسے کہ اس ضرب المثل میں: يطلب اثرا بعد عين: وہ اصل کے بعد نشان ڈھونڈ رہا ہے (سانپ نکل گیا لکیر پیٹ رہا ہے)۔ الأثر و الأثُر جمع آثار و أثور: زخم کا نشان۔ الأثارة و الأثرة جمع أثُر: بقیہ علم۔ أثير: اثر عظیم چھوڑنے والا فرسٌ أثير: وہ گھوڑا جس کے کھروں کے نشانات بڑے ہوں۔ المأثرة و المأثُرة جمع مآثر: اچھا اثر چھوڑنے والا قابل تعریف فعل۔

استأثر الله به: اللہ تعالیٰ کا کسی کو دنیا سے اٹھا لینا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وفات دینا۔ الأَثَر: مدت۔

۷۔ الأَثْر جمع اُثُور و الأَثِير جمع اُثَرَاء: تلوار کا جوہر۔ الأَثِيــر (فلك): قدماء کے نزدیک نواں آسمان یا فلک (ف)۔ علماء طبیعات کی اصطلاح میں: الَيثر: (ایتھر) یعنی ایسا مادہ جو وزن کے تحت نہیں آتا اجسام میں سرایت کرتا ہے، جس کے تموج سے گرمی بڑھتی اور آواز دور تک جاتی ہے۔ الاثیـرات الـملـحية: (ک) پھولوں، پھلوں اور روغنی مادوں میں موجود عضوی مرکبات الأَثْـــرَجَة (ك): الکحل اور ایسڈ کا کیمیاوی عمل جس سے نمکیاتی اثیر اور پانی پیدا ہوتا ہے۔

○ اَثَرَ ـُ اُثْراً و أثارَةً ه عن: کو سے یا کی سند سے نقل کرنا، بیان کرنا، اَثَّـر فـي یا علـي: پر اثر انداز ہونا، اثر ڈالنا، پر عمل کرنا، پر اثر کرنا، تاثر قائم کرنا، اثر رکھنا۔ آثَرَ ه علي: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا۔ ـــ ه: کے لئے خصوصی پسند کا حامل ہونا، کو پسند کرنا، چاہنا، کا شائق ہونا، ـــ ان: کچھ کرنے کا انتخاب کرنا، کچھ کرنے کو دانشمندانہ، مناسب یا قرین مصلحت سمجھنا۔ ـــ ه یا ه: کی تعظیم کرنا، کا احترام کرنا، سے عقیدت رکھنا۔ آثَرَ نَفْسَهُ بالخير: اپنے لئے خیر کی آرزو کرنا، اپنے لئے سب سے بہتری کی امید ہونا۔ تَـأَثَّـر: متاثر ہونا، اثر ڈالا جانا، اثر پذیر ہونا۔ ـ ب / ل / من: سے جذبات ابھرنا، دل پر اثر ہونا ـــ ب: سے اثر پذیر ہونا۔ ـــ ه: کے نقش قدم پر چلنا، کی مثال پر ردعمل کرنا، کی ریس کرنا ـــ ه: کے بارے میں مزید تجسس سے کام لینا، کو محسوس کرنا، سمجھنا۔ استَـأْثَرَ: اجارہ داری کا دعویٰ کرنا۔ ـــ ب: کا اکیلا مالک ہونا، قابض ہونا، کی اجارہ داری رکھنا، کا مالک بن بیٹھنا، پر بلا شرکت غیرے قابض ہونا ـ ه: کو پہلے ہی قبضہ میں لے لینا، (توجہ کو) منہمک کرنا۔

اَثَر جمع آثَار: لیک، راہ، آثار، نام و نشان، نشان، ہلکا سا اثر، چاشنی، (فنکار وغیرہ کا) ہاتھ، نقش، اثر، تاثر، عمل، حدیث، فنی تخلیق، قدیم یادگار۔ آثَـــار: آثار قدیمہ، اثریات، بقایا، نام و نشان، (مذہبی) برکات، یادگاریں عِلمُ الآثار: علم آثار قدیمہ اثریات۔ دارُ الآثـار: آثار قدیمہ یا اثریات کا عجائب گھر بـأثـر رَجْـعِـي: پچھلے زمانہ سے نافذ ہونے کی طاقت کے ساتھ۔ لا اَثَـر لـه: غیر موثر، بے کار، بے سود، بے تاثیر۔ أَصْبَحَ اَثَـراً بـعدَ عين: تباہ و برباد ہو جانا، مٹ جانا، یادوں کے سوا پیچھے کچھ نہ چھوڑنا۔ اعـاده اَثراً بعد عين: کو مکمل طور پر تباہ کر دیا عـلـی اَثَرِه وفـي اِثْـره: کے قدموں کے نشان پر، کے پیچھے پیچھے، کے بعد، کے فوراً بعد، کے تھوڑی دیر بعد، پھر، اس کے بعد، بعد ازاں، عـلـى الأَثَر: فوراً بعد، تھوڑی دیر بعد اِثْرَ: کے فوراً بعد، کے بعد ہی۔ أَثَري: ماہر آثار قدیمہ آثَـارِي: ماہر آثار قدیمہ۔ آثَـارِي: قدیم۔ عـالـم اَثَري: ماہر آثار قدیمہ لغة اثَرية: مردہ زبان۔ اَثِر: خودغرضانہ، خودغرض، مطلبی، مطلب پرست۔ اَثَـرَة: خودغرضی، مطلب پرستی أَثِيـر عـنـد: کے ہاں زیادہ پسندیدہ زیادہ ترجیح والا، نوازش یافتہ، منتخب، پسندیدہ، چیدہ، دقیقہ رس، عالی دماغ أَثَارَة: بقیہ: باقی ماندہ، بچا کھچا، ہلکا سا سراغ، کھوج، علامت، نشانی، ذرہ، نقش قدم، مـآثـرہ جمع مـآثِر: کارنامہ، کار عظیم، بہادری کا کام، جلیل القدر کام سـريع التاثر: آسانی سے متاثر ہونے والا۔ اثر پذیر تَـأْثُـريَة: مصوری یا بیان کا طریقہ جس میں مجموعی اثر پر زور دیا جاتا ہے، نہ کہ تفصیلات پر۔ اثریت المذهبُ التاثري: مصوری یا بیان کے مندرجہ بالا طریقہ والی تحریک۔ قول ماثور اور کـلـمـة مـأثـورة: ضرب المثال، کہاوت، مثل، مقولہ۔ مُـؤَثِّر: اثر ڈالنے والا، عمل کرنے والا، کاری، کارگر، موثر، تیر بہدف، مجرب، پراثر، دلنشین، دلگداز، رقت انگیز، پردرد، دل پر اثر کرنے والا، دلسوز، جذباتی۔

اثف: أَثَفَ ـِ اُثُفَّاهُ: کے پیچھے جانا، کو طلب کرنا۔ اَثَّفَ تَـأْثِـيفًـا القِدرَ: ہانڈی کو چولہے پر رکھنا۔ تَـأَثَّفَ الرجلُ المكانَ: کسی جگہ میں رہنا ـ القومُ الأمرَ وعـلـيـه: لوگوں کا کسی کام پر اکٹھا ہونا۔ الأُثْـفِيَّة او الإِثْفِيَّة جمع أَثَـافي: پتھر جس پر ہانڈی رکھی جاتی ہے۔ جماعت۔ ثالِثَةُ الاثافي: پہاڑ کا ایک حصہ جس کے سامنے دو پتھر رکھ کر اس پر ہانڈی رکھتے ہیں۔ رماه اللّٰه ثالثة الاثافي: خدا کرے وہ بڑی مصیبت میں پڑے۔

○ اُثْـفِيَّة جمع اَثَــافِ: آتش دان میں لگی ہوئی لوہے کی تپائی، تپائی، تین پائے کی میز، چولہے کے تین پتھروں میں سے ایک جن پر ہانڈی رکھی جاتی ہے۔ ثَـــالِثَةُ الاثافي: بیش قرار انعام والی فنکاری۔

اثل: ۱۔ اَثَـلَ ـُ و اَثُلَ ـِ أثالَةً و اُثُولاً: شرافت میں جڑ پکڑنا صفت اثِـيل و مُؤَثَّل۔ اَثَّلَهُ: کی اصل اور اس کی پاکیزگی واضح کرنا۔ ـــ المرءَ: کی تعظیم کرنا ـــ المـجدَ: بزرگی کی بنیاد رکھنا۔ تَـأَثَّلَ: جڑ پکڑنا۔ الأَثَلَة و الأُثْلَة: اصل۔ الأُثْلَة و الأَثَال و الأُثَال: مال و دولت [illegible] اَثَّلَتَهُ: اس نے اس پر عیب لگایا اور اس کو کم قدر کیا۔

۲۔ اَثَـلَ ـِ اُثُولاً و اَثُلَ ـُ اَثالَةً: زمین میں جڑ پکڑنا صفت: اثِيل و مُؤَثَّل۔ تَأَثَّلَ: جڑ پکڑنا۔ ـ البئرَ: کنواں کھودنا۔

۳۔ اَثَّـلَ المالَ: مال کی زکاۃ دینا، مال کو بڑھانا۔ تَـأَثَّلَ: جمع ہونا، ـ المالَ: مال کمانا اور اس کو بڑھانا الأَثَلَة و الأُثْلَة: گھر کا ساز و سامان۔ ساز و یراق۔

۴۔ الأَثْل واحد أَثْلَة: جمع اَثَـلات و آثال و اُثُول: جھاؤ کا درخت۔

○ أَثَـلَ ـِ اثَالَة و اُثُولاً: مستحکم ہونا، مضبوط ہونا۔ اَثَّل: دولتمند ہو جانا۔ تَأَثَّلَ: مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، دولتمند ہو جانا۔ أَثَل جمع اُثُول: اسم جنس واحد اَثْلَة جمع اَثَـلات: سمندر کے کنارے کی ایک جھاڑی جس پر سفید اور گلابی پھول آتے ہیں اور جس کے پتے نرم ہوتے ہیں۔ أثيـل و مُؤَثَّـل: جس کی بنیاد گہری ہو شریف الاصل، خاندانی۔

اثم: أَثِـمَ ـَ إِثْمًا و أَثَمًا و اثامًا و مَأْثَمًا: گناہ کرنا، ناجائز کام کرنا صفت: اثِـيم: جمع أَثَـماء و آثِم جمع اَثَـمَة۔ اَثَمَ ـُ أَثْمًا اللّٰهُ فلانًا في كذا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی چیز میں گناہ گار ٹھہرانا اور سزا دینا اَثَّـمَـهُ: کی طرف گناہ منسوب کرنا۔ آثَـمَـهُ: کو گناہ میں مبتلا کرنا۔ تَـأَثَّمَ: گناہ سے بچنا، رکنا، گریز کرنا۔ الإِثْم جمع آثـام: ناجائز کام، خطا جرم، گناہ الـمَـأْثَـم و المَأْثَمة جمع مَآثِم: گناہ، جرم خطا، ناجائز فعل۔

○ أَثِـمَ ـَ إِثْماً و اَثَماً و مَأْثَماً: گناہ کرنا، غلطی کرنا، چوک جانا۔ تَـــأثَّــم: گناہ سے بچنا، معصیت سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو حد کے اندر رکھنا، رکنا، ہچکچانا۔ إِثْــم جمع آثــام: گناہ، جرم، خباثت۔ مَأْثَم جمع مَآثِم: بمعنی اِثم۔ تَأْثِيم: بمعنی إثم۔ آثِم جمع أَثَمَة و أَثِيم جمع اُثَماء: گنہگار، مجرم، برا، بد، فاسق، بداعمال، بدنیت۔

○ اِثْمِد: سرمہ۔

اثن: الأَثْنُولَوجيا: علم الانسان، انسانی نسلوں کی خصوصیات اور ان کے باہمی تعلقات کا علم۔ (ethnology)

○ اَثِير: ایتھر (ether)

○ اثینا: ایتھنز Athens

○ أَثْيُوبيا: ایتھوپیا Ethopia اثْيُوبي: ایتھوپیا کا (باشندہ) جمع اثْيُوبِيُون البلاد الأَثْيُوبِيَة: ایتھوپیا (Ethopia)

اثا: اَثا ـُ اَثْواً و اِثَاوَةً به و اَثَي ـِ اَثْياً و اِثَايَةً به: کی چغلی کھانا، پر تہمت لگانا۔ تَـأَثَوا و تَآثَوا: بادشاہ کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پاس مقدمہ لیجانا۔ المَاْئِيَة و المَاْثاة جمع مَآثِ: چغل خوری۔

اج: ا۔ أَجَّ ـُ أُجُوجًا الماءُ: پانی کا کھارا اور کڑوا ہونا۔ آجَّ الماءَ: پانی کو کھارا اور کڑوا بنانا۔

۲۔ أَجَّ ـُ أَجِيجًا: (آگ کا) بھڑکنا، شعلہ مارنا صفت: أَجَّاج و أَجُوج۔ أَجَّجَ النارَ: آگ کو بھڑکانا۔ تَأَجَّجَ و تَآجَّ و إِئْتَجَّ: بھڑکنا، شعلہ زن ہونا۔ ۔ت النارُ: آگ کا سخت گرم ہونا۔ الأَجَّة جمع إِجَاج: گرمی کی شدت إِشْتَدَّتِ اجَّةُ الصيف: موسم گرما کی گرمی کا تیز ہونا۔ الأَجِيج: گرمی کی شدت۔ اجيج النار: آگ کی شدت۔

۳۔ أَجَّجَ علی العدوّ: دشمن پر حملہ کرنا۔ الأَجَّة والأَجِيج: شور، چلنے کی آہٹ، اجِيجُ القوم: لوگوں کا شور۔ اجيج الماء: پانی بہنے کی آواز۔

○ أَجَّ ـِ أَجِيجًا: جلنا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، روشن ہونا (آگ کا)۔ أَجَّجَ ہ: آگ روشن کرنا، جلانا، سلگانا، لگانا۔ تأَجَّج بمعنی أَجَّ ماءٌ أُجَاج: کڑوا، کھارا پانی۔ أَجَّاج: گرم، روشن، شعلہ زن، جلتا ہوا، مُتَأَجِّج: جلتا ہوا، شعلہ زن، نہایت گرم۔

☆ أَجِبِيَة: Horologium۔ وقت بتانے کا آلہ۔

اجد: أَجَدَ و آجَدَ و أَجَّدَهُ: کو قوی اور مضبوط کرنا۔ أُجُد: قوی (مونث) ناقةٌ أُجُد: مضبوط اونٹنی۔ الاجَاد (ب): چھوٹا طاق۔ المُؤَجَّد: مضبوط کیا ہوا۔ بِناءٌ مُؤَجَّد: مضبوط عمارت۔ ثوبٌ مُؤَجَّدُ النسِيج: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔

اجر: ا۔ اَجَرَ ـِ ـُ أَجْرًا و إِجَارَةً و آجَر إِيجارًا الرجُلَ علی كذا: کو کا بدلہ دینا، کو کی مزدوری دینا۔ إِئْتَجَرَ: صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مزدوری مانگنا۔ الأَجْر جمع أُجُور و آجار: ثواب، انعام، معاوضہ، مزدوری۔

۲۔ آجَرَ مُوَاجَرَةً و إِسْتَأْجَرَ الرجُلَ: کو مزدور بنانا۔ الإِجَارَةَ و الأُجْرَة جمع أُجَر: مزدوری۔ الأَجِيْر: مزدور۔ ج أُجَراء۔

۳۔ آجَرَ إِيجارًا الدارَ فلانًا و من فلاَن: گھر کو کسی کو کرایہ پر دینا صفت مُؤْجِر: (نہ کہ مُؤَاجِر) إِسْتَأْجَرَ الدارَ: گھر کو کرایہ پر لینا۔

۴۔ أَجَرَ ـِ أَجْرًا و أَجَارًا و أُجُورًا العظمُ: ہڈی کا جڑ جانا، ۔ العظمَ: ہڈی کو جوڑنا۔

۵۔ أَجَّرَ الطينَ: مٹی کو پکانا، مٹی کو پکا کر اینٹ بنانا۔ الآجُرَّة جمع الآجُرّ: اینٹ، عام لوگ اسے قرمید کہتے ہیں۔

○ اَجَرَ ـُ أَجْرًا ہ: کو انعام دینا، بدلہ دینا، اجر دینا، معاوضہ ادا کرنا، أَجَّرَ ہ: کو کرایہ پر دینا، پٹے پر دینا، ٹھیکہ پر دینا، کرائے پر اٹھانا۔ اجَّرنفسَهُ: اپنے آپ کو بھاڑے پر دینا۔ آجَرَہ: کو کرایہ پر دینا، پٹے پر لینا، کرایہ پر لینا۔ ۔ ہ: کو اجرت پر رکھنا۔ إِسْتَأْجَرَہ: کو کرایہ پر لینا، کو مزدوری پر رکھنا۔ اجْر جمع أُجُور: مزدوری، تنخواہ، محنتانہ، انعام، معاوضہ، ہرجانہ، مشاہرہ، اجرت، قیمت، فیس، محصول۔ أُجُورُ السفر: سفر کا کرایہ۔ اُجْرَة: کرایہ، امکانی کرایہ، اُجرت، قیمت، محصول، فیس، مقررہ محصول (سرکاری) خرچ، محصول ڈاک، اجرةُ البريد: محصول ڈاک اجرةُ النقل: نقل وحمل کے اخراجات، کرایہ، بھاڑا، چھکڑے کا کرایہ، بار برداری کا خرچ۔ اجِير جمع أُجَرَاء: بھاڑے کا ٹٹو، کام کرنے والا، مزدور، دیہاڑی پر مزدوری کرنے والا، ملازم، اجِيرَة: کام کرنے والی عورت، کارخانہ میں کام کرنے والی، عورت مزدور، ملازمہ۔ تَأْجِير: کرایہ پر دینا، مَشْرُوعُ التَأْجِير والاعَارَة: Lend Lease Act۔ إيجار جمع ايجارات: کرایہ، کرایہ پر دینا، لِلْايجار: کرایہ پر، کرائے کیلئے۔ اِجَارَة جمع إجارات: کرایہ، کرایہ پر دینا، إستئجار: کرایہ، پٹہ، لگان داری کی مدت یا شرائط۔ مَأجُور: تنخواہ دار ملازم، منفعت بخش طور پر ملازم رکھا ہوا، بھاڑے کا سپاہی، محض پیسے کے لالچ میں کام کرنے والا، زرخرید، روپے پر بکا ہوا، بھاڑے کا ٹٹو، ضمیر فروش، کرایہ پر لیا ہوا، رشوت دیا ہوا۔ مُؤَجِّر جمع مُؤَجِّرون: مالک مکان، زمین دار، پٹے پر دینے والا۔ مُسْتَاجِر: پٹے پر لینے والا، کرایہ دار، ملازم رکھنے والا۔ آجُرّ (واحد آجُرَّہ) پکی اینٹ۔ اَجْزَاجی جمع اجزاجية: پنساری، عطار، دواساز، دوا فروش۔ اجزا خانَہ: دواؤں کی دکان، عطار خانہ، عطار کی دکان۔

اجص: الإِجَّاص واحد إِجَّاصَة (ن): آلوبخارے کا درخت، زردآلو کا درخت، آلو بخارا، زردآلو۔

○ إِجَّاص: ناشپاتی، ناشپاتی کا پیڑ۔

اجل: ا۔ أَجَلَ ـُ أَجْلاً عليه شرًّا: کے خلاف شر اٹھانا۔ الأَجْل: أَجَل کا مصدر پہلے اسے برائی کی وجہ بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا بعد ازاں ہر کام کے سبب کے معنی میں لیا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے: من أَجْلِك و لأَجْلِك فعلتُ هذا: یہ میں نے تمہاری وجہ سے کیا۔

۲۔ أَجِلَ ـَ أَجَلاً: دیر کرنا، تاخیر کرنا۔ أَجَّلَ الشيءَ: کی مدت مقرر کرنا، کو مہلت دینا، ملتوی کرنا۔ أَجَّلُوا الاجتماعَ: انہوں نے جلسہ ملتوی کر دیا۔ پیچھے رہنا، مہلت مانگنا۔ إِسْتَأْجَلَ: تاخیر چاہنا، مہلت طلب کرنا الاَجَل جمع آجَال: موت، موت کا وقت۔ الآجِل و الآجِلَة: دیر سے ہونے والا۔ آخرت۔ التَأْجِيل: تاخیر۔ تأجيل الجلسة او المحاكمة: جلسے یا عدالتی کارروائی کا التواء۔

۳۔ أَجِلَ ـَ أَجْلاً: گردن کے درد میں مبتلا ہونا صفت: أَجِل و اجِيل۔ أَجَّلَ الرجُلَ: کی گردن کے درد کا علاج کرنا۔ الإِجْل: گردن کا درد۔

۴۔ أَجَل: ہاں

۵۔ الإِجْل: نیل گایوں کا گلہ۔

○ اجِلَ ـَ اَجَلاً: ہچکچانا، دیر کرنا، سستی کرنا، دیر لگانا۔ أَجَّلَ ہ اِلی: کو تک موخر کرنا، ملتوی کرنا، ٹالنا، موقوف رکھنا، میں تک تاخیر کرنا، کو تک لٹکائے رکھنا، روکے رکھنا۔ تَأَجَّل الی: تک ملتوی ہونا، موخر ہونا، موقوف رکھا جانا، ٹلنا، إِسْتَأْجَلَ ہ: کو ملتوی کرنے کی درخواست کرنا، کو موخر کرنے کی کوشش کرنا۔ اَجَل: ہاں، بے شک، یقیناً، لِأَجْلِ یا مِن اَجْلِ: کی وجہ سے، کے باعث، کے سبب سے، کے لئے، کے واسطے، کی خاطر لأجلِ أن: تا کہ۔ مِن اجلِ هذا: اس لئے، لہٰذا، اس وجہ سے، اس سبب سے۔ أَجَل جمع آجَال: مقررہ وقت، تاریخ، آخری مدت، موت کا وقت، تاخیر، مہلت، بالأَجَل: ادھار، قرض پر۔ قَصِيرُ الأجَل: مختصر مدت کا اِلی اَجَلٍ غيرِ مُسَمًّى: غیر معینہ مدت تک یا کے لئے، آئندہ اطلاع تک۔ آجِل: مؤخر، بہت طول پکڑ جانے والا، تاخیری، موقوف رکھا ہوا، بعد میں، آئندہ ہونے والا، مستقبل کا۔ عاجلا او آجلاً اور فی عاجِلِهِ او آجِلِهِ: جلد یا بدیر، دیر سویر، کبھی نہ کبھی، فی العَاجِل والآجِل: اب اور آئندہ۔ الآجِلة: آخرت مُؤَجَّل: موخر، دیر سے، ملتوی، تاخیری، مقررہ وقت میں، آخری مدت میں۔

اجم: ا۔ اَجَمَ ـِ أَجْمًا و أَجِيمًا النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ تَأَجَّمَ النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا — عليه: پر غضبناک ہونا۔

۲۔ تَأَجَّمَ الأسَدُ: شیر کا جھاڑی میں داخل ہونا الأَجَمَة جمع أَجَم و أُجُم و جج آجام: شیر کے رہنے کی جگہ، گنجان درخت، جھاڑی الأُجُم جمع آجَام: قلعہ۔

○ اَجَمَة: (اسم جنس) اجَم جمع اجَمَات و أُجُم و آجَام: گنجان جھاڑیاں، جنگل، درختوں کا جھنڈ، درختوں اور جھاڑیوں کا علاقہ۔ نرسل، سرکنڈے۔ أَجَمِية: ملیریا بَعُوضَةُ الاجمية: ایک قسم کا مچھر

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جس سے ملیریا پیدا ہوتا ہے۔
اجن ۱۔ أَجَنَ ـِ أَجْنًا و أُجُونًا و أَجِنَ ـَ أَجَنًا الماءُ: پانی کا رنگ اور مزہ بدلنا۔ صفت: آجِن و أَجِن۔
۲۔ أَجَنَ ـُ أَجْنًا الثوبَ: کپڑے کو دھونے کے لئے کوٹنا۔ الإجَّانَة جمع اَجَاجِین: کپڑے دھونے کا ٹب۔ بڑا مرتبان۔ المِنْجَنَة و المِنْجن جمع مَآجن: کپڑے کوٹنے کی موگری۔
○ آجن: کھاری، نمکین (پانی)
○ اَجَنْدَة: نوٹ بک
احّ: أَحَّ ـُ أَحًّا: کھانسنا۔ الأُحَاح: پیاس، غصہ غیظ۔ الأَحِیح و الأَحِیحَة: غصہ، غیظ۔
احد ۱۔ أَحَّدَ و وَحَّدَ المُتَعَدِّدَ: متعدد کو ایک کرنا۔ (جیسے آپ کہتے ہیں: ثَنَّاه، ثَلَّثَهُ: اس نے اسے دو یا تین بنا دیئے)۔ العددَ (ع ح): کسی عدد پر ایک بڑھا دینا آپ کہتے ہیں احدتُ العشرة: میں نے دس کو گیارہ بنا دیئے۔) إتَّحَدَ بہ: کے ساتھ ایک ہونا، متحد ہونا۔ إتَّحَدَ الماءُ بالخمر: پانی شراب میں مل گیا۔ اتحد الفریقان: دونوں فریق متفق ہو گئے۔ استَأحَدَ: اکیلا ہونا۔ الأحَد مونث إحْدَى جمع آحاد: ایک اکیلا، یکتا۔ (ع ح): پہلا عدد (کہا جاتا ہے: الآحاد: (کئی ایک) جیسے کہا جاتا ہے العشرات: کئی دس، دسیوں، المئات: کئی سو، سینکڑوں): فلانٌ اَحَدُ الاحدین: فلاں بے مثل ہے)۔ یك شنبه: اتوار۔ إحدَى الإحَد: بڑا نفرت انگیز معاملہ۔ جَاؤوا أُحَادَ یا أُحَادَ أُحادَ: وہ ایک ایک کر کے آئے۔ الأَحَدِیَّة: یکتائی۔
۲۔ وَحَّدَ اللّٰہَ: دیکھو مادہ وح د۔ الأَحَد: اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے: ایک اکیلا، یکتا۔ التوحید: ایک معبود کی عبادت، اس کی ضد إشراك ہے۔ المُوَحِّد: ایک خدا کو ماننے والا اس کی ضد مُشرِك ہے۔
○ اَحَّدَ ہ: کو ایک کرنا، متحد کرنا، یکساں کرنا اِتَّحَدَ: دیکھو مادہ وح د۔ اَحَد مونث إحْدَی: ایک، کوئی شخص۔ الأَحَد: ایک (خدا): اتوار، اَحَدُهُم: ان میں سے ہر ایک۔ یوم الأحد: اتوار۔ احد السَّعُف: Palm Sunday، احدُ العَنْصَرة: اتوار جس میں رسم اصطباغ ادا کی جاتی ہے۔ اَحادُ الأُلوف: کئی ہزار (9 ہزار) اَحَدِی: اتوار کا، عیسوی، اَحَدِیَة: وحدت، ایک ہونا، الآحاد: اکائیاں (حساب)۔
احن: أَحِنَ ـَ أَحَنًا: اپنی دشمنی اور کینے کو پوشیدہ رکھنا۔ آحَنَ مُؤَاحَنَةً الرجلَ: سے دشمنی رکھنا۔ الإحْنَة جمع إحَن: کینہ۔
○ احِنَ ـَ اَحَنًا علی: سے نفرت کرنا إحْنَة جمع إحَن: پرانا خاندانی جھگڑا۔ گہری جڑوں والی نفرت۔
اخبط: أُخْبُوط و أُخْطُبُوط (ح): سمندر جانور کھانے والا ہشت پا جانور۔
○ اخطبوط: ہشت نیش یا ہشت پا صدفہ، عالمگیر اثر کی حامل ظالمانہ منظم قوت (Octopus)۔
اخذ: ۱۔ اَخَذَ ـُ أَخْذًا و تَأخاذًا: لینا۔ ہٗ: کو پکڑنا۔ ـ من شاربه: مونچھیں کترنا۔ ـ ت فیه الخمرُ: پر شراب کا اثر انداز ہونا۔ ـ عنهُ: سے نقل کرنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا، ہم کہتے ہیں: اخذ عن کتب الاولین: اس نے اسلاف کی کتابوں سے نقل کیا۔ اخذ عنه الجبرَ و الهندسةَ: اس نے اس سے الجبرا اور جومیٹری کا علم حاصل کیا۔ سیکھا۔ ـ إخْذَهُ و بإخْذِهِ: کے طریقے پر چلنا، کے اخلاق کو اپنانا، کے رنگ میں رنگ جانا۔ ـ علی یده: کو اس کام سے باز رکھنا جو وہ کرنا چاہے۔ ـ علی نفسِهِ: عہد کرنا۔ إتَّخَذَهُ و تَخِذَهُ ـَ تَخْذًا صدیقًا: کو دوست بنا لینا الأخِیذ جمع اخذی: قیدی الأخیذه: مال غنیمت، لوٹ کا مال، دشمن سے چھینا ہوا مال، غصب کیا ہوا مال۔ المَأخذ جمع مَآخِذ: کوئی چیز لینے یا اخذ کرنے کی جگہ، وقت اور طریقہ، راستہ۔ المَآخِذ: چشمے، منابع، کانیں، طریقے (مآخذ اللؤلؤ فی الخلیج العربی: خلیج عرب میں موتیوں کے سرچشمے)۔ تحصیل علم کے منابع، کتاب کے مآخذ۔
۲۔ اَخَّذَہ: پر جادو کرنا، کو مسحور کرنا۔ الأُخْذَة: منتر۔
۳۔ اَخَذَ ـُ اَخْذًا و تَأخاذًا بذنبه: کو اس کے گناہ پر سزا دینا، سے مواخذہ کرنا۔ آخَذَهُ مُؤَاخَذَةً: کو ملامت کرنا، پر عتاب کرنا۔ ـ علی ذنبهُ بِذَنبِهِ: کو اس کے گناہ پر سزا دینا۔
۴۔ إتَّخَذَ: دبنا۔ إستَأخَذَ: دبنا، درد کی وجہ سے سر جھکانا۔ الآخِذَة (طب): بے حسی یا اعضاء کا سن ہونا الأُخُذ: (طب): آشوب چشم۔
۵۔ اَخَذَ ـُ یفعل: کرنے لگنا۔ ـ فی کذا: کو شروع کرنا۔
۶۔ الإخَاذَة جمع إخَاذَات و إخَاذ اور اخاذ کی جمع أُخُذ و أُخْذ: تالاب نما نشیبی جگہ جس میں پانی جمع ہو۔
○ اَخَذَ ـُ أَخْذًا ہ من: کو ـ سے لینا، کو میں سے لینا۔ ـ ... کو ... کرنا
وصول کرنا۔ ـ ہ: کو زبردستی لے لینا، پر قبضہ کرنا۔ ـ ب: کو زبردستی چھیننا، ہتھیانا، ہتیانا، کو پکڑنا۔ ـ ہ: (آنکھ کا) کسی کو دیکھ لینا۔ دیکھنا۔ ـ ہ من: کو ـ سے لگنا، خیال کرنا، سمجھنا، نتیجہ اخذ کرنا یا نکالنا، استنباط کرنا: ـ ہ من: کو کے بین السطور پڑھنا یعنی تحریر کا پنہاں مفہوم پالینا۔ ـ ب: کو مسحور کرنا، میں جذبات کی لہر دوڑا دینا، کو لبھانا، موہ لینا، فریفتہ کرنا، کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے رکھنا۔ ـ ب: (طریقہ) اپنانا، حاصل کرنا، ـ ب: سے وابستہ رہنا، ـ ب: کو اختیار کرنا، کی نقل کرنا، قبول کرنا، پر عمل کرنا، پر عمل پیرا ہونا، کو سنبھالنا۔ ـ ب اِلی: کو تک لیجانا، کی تک رہنمائی کرنا۔ ـ ہ ب: پر کسی کام کے لئے زور دینا۔ کو کی نصیحت کرنا، کو پر مجبور کرنا، کو کا حکم دینا، کو کی ہدایت کرنا، پر کچھ عائد کرنا۔ ـ علی ہ: سے کچھ لیجانا، کو سے محروم کرنا، کو سے روکنا، کو کا الزام دینا، کو کیلئے قصوروار ٹھہرانا۔ کو پر ملامت کرنا۔ ـ علی اُن: پر الزام لگانا، اس حقیقت کے لئے کہ، ـ علی ب: کو پر مجبور کرنا (قانونی یا اخلاقی طور پر)، ـ علی عن ہ: سے کوئی چیز سیکھنا۔ ـ عن / علی: سے علم حاصل کرنا اخذ العلم عنه: کے تحت پڑھنا، سے پڑھنا۔ ـ فی / ب: کو شروع کرنا، کو کرنا شروع کرنا، کچھ کرنے کے لئے تیار ہونا، روانہ ہونا، کو کرنے کا ارادہ کرنا یا کرنے کے قریب ہونا۔ اَخَذَ اُهْبَتَهُ: تیاریاں کرنا، تیار ہونا۔ اَخَذَ مَاخَذَ فلان: کا راستہ اختیار کرنا کی مثال پر عمل کرنا۔ أَخَذَ منه مأخَذًا: (احساس کا) کسی کو گرفت میں لینا، یا اس کو قبضہ میں کرنا۔ اَخَذَ مَجْراهُ: اپنا راستہ لینا۔ اَخَذَ مَجْلِسَهُ: بیٹھنا، نشست لینا۔ أَخَذَ حِذْرَهُ: چوکنا، چوکس یا ہوشیار ہونا۔ اَخَذَهُ بالحُسنیَ: کے ساتھ دوست جیسا ہونا، خوش اخلاق ہونا۔ اخذ بخاطره: کی جانب بامروت یا با اخلاق ہونے کا مظاہرہ کرنا، کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اخذ بذنبه: کو اس کی خطا پر سزا دینا اخذ رایَه: کی رائے طلب کرنا سے مشورہ کرنا اُخِذَ الرایُ علیه: معاملہ پر ووٹنگ کرائی گئی۔ اَخَذَ بِاسباب: کو اختیار کرنا، قبول کرنا أَخَذَ بِاَسْبَابِ الحَضارةِ الأوروبیة: یورپی کلچر اختیار کرنا أَخَذَه بالشِدَّة: سے سختی کے ساتھ پیش آنا، کے لئے صورت حال مشکل یا ناخوشگوار بنانا۔ اخذعلیه طریقه: کا راستہ روکنا، کی راہ میں حائل ہونا اَخَذَهُ علی عاتِقِهِ: کی ذمہ داری لینا۔ اَخَذَ العُدَّةَ لِ: کو کرنے کے لئے تیار ہونا۔ اَخَذَعلیه عهدًا: پر ذمہ داری عائد کرنا۔ اُخِذَ عَلَی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(حِيـنِ) غِـرَّةٍ: اچانک، غیر متوقع طور پر لیا جانا، بے خبری میں پکڑا جانا اخـذ بالمقابلة: جنس کے بدلے جنس چکانا، ادا کرنا شیٔ یا خذُ القلوب: دلوں کو موہ لینے والی چیز۔ مسحور کن یا ہیجان خیز چیز۔ أَخَـذَ نـا المطُر: ہم بارش میں قابو آگئے۔ اخذ بناصِره: کی مدد کرنا، کا ساتھ نہ چھوڑنا، کی دیکھ بھال کرنا، کا خیال رکھنا، کی بہبود یا برتری کے لئے کوشاں ہونا۔ اَخَـذَ نَفَسَهُ: گہرا سانس لینا۔ اَخَذَ عَلَيهِ اَنْفَاسَهُ: کو بہت حیران یا خوش کردینا۔ أَخَذَهَ النومُ: نیند نے اسے گھیر لیا۔ اَخَذَ بِيَدِهِ: کی مدد کرنا، کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ أَخَّذَه: کو سحر زدہ کرنا، لبھانا، رجھانا، فریفتہ کرنا۔ آخَـذَهُ علی / ب: کو کیلئے الزام دینا، قصوروار ٹھہرانا، پر کے لئے ملامت کرنا، کے لئے مذمت کرنا، پر کا الزام لگانا، کو کے لئے سزا دینا۔ ـ علی ہ: سے کسی میں خفا ہونا، کو کسی میں حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ لا تـؤاخذنی: معاف کیجئے، مجھے امید ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اِتَّخَذَ ہ کو لینا، ذمے لینا، اختیار کرنا، (وقت) لینا، (قرارداد) پاس کرنا، اختیار کرنا۔ ـ ہ ہ یا ہ ہ: کو بطور قبول کرنا، برداشت کرنا، کو بطور ...... چننا، ـ ہ کو استعمال کرنا۔ (کسی کے انداز تکلم کی) نقل کرنا اِتَّخَذَ شكلاً: شکل اختیار کرنا اِتَّخَذَ موقفًا: رویہ یا موقف اختیار کرنا اتخذ التدابير اللازمة: ضروری اقدامات اختیار کرنا اتـخذ قرارً: قرارداد پاس کرنا، اختیار کرنا۔ اتـخـذ المواقع الجديدة: (فوجوں کا) نئی پوزیشنوں پر قابض ہونا۔ اخـذُ الـرانـي: ووٹنگ، ووٹ اخذٌ وردٌ: بحث مباحثہ، شیٌٔ لايقبل اخذًا و لاردًا: حتمی چیز۔ اخـذ وعطاء: مصالحانہ رویہ، تجارت، لین دین، (تجارتی) تعلقات، بحث، مباحثہ، لڑائی، جنگ، اُخْـذَة: سحر، جادو، افسوں، منتر، ٹونا، ٹوٹکا، تعویض، گنڈا۔ أَخِيذ: جنگی قیدی اخِيـذَة: مال غنیمت لوٹ کا مال، لوٹ کھسوٹ. اَخَّـاذ: دل فریب، موہنا، دل موہ لینے والا، گرویدہ کرنے والا، ہیجان خیز۔ مَأْخَذ جمع مَآخِذ: وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز لی جائے۔ سرچشمہ، منبع، دیوار کی سوکٹ، نکلنے کا راستہ، اختیار، ادھار لینا، قرض، انداز عمل، طریقہ کار کا انداز، راہ، راستہ، گزرگاہ، پہنچ، رسائی جمع مَآخذ: ماخذوں کے حوالے، کتب خانہ، کتابیات، کتب نما، لائق ملامت نقاط، غلطیاں، خرابیاں، عیوب، نقائص، خامیاں یا کمزوریاں۔ المـاخذ الأقرب: سادہ ترین، آسان ترین راستہ، قـريـبُ الـمـاخذ: استعمال میں آسان، کام لینے میں آسان۔ مُـؤاخـذه: اعتراض، الزام، ملامت، زجرو، توبیخ۔ لامُـؤاخـذة: معاف کیجئے، مجھے امید ہے کہ کوئی جرم نہیں کیا گیا۔ مـاخوذ: لیا گیا، گرفت کیا گیا، غیر متوقع یا اچانک جا لیا گیا، پکڑا گیا، پھندے میں پھانسا ہوا، حیران و بھونچکا یا ہوا۔ ـــ ب: سے مسحور، کو دلکش یا دلچسپ پانے والا مـاخـوذبه: نافذ، قانونی۔ مَـاخوذات: وصولی، کل آمدنی، مجموعی یـافـت نـفـع: منافع، آمدن (تجارتی اصطلاحات میں)۔

اخر: ا۔ أَخَّرَه تأخِيرًا عنه: کو سے پیچھے ہٹانا۔ تَأَخَّرَ و إسْتَأْخَرَ: پیچھے رہنا۔ الأخَر جمع آخَرُون: مونث أُخْرَى وأُخْراة جمع أُخَر وأُخْرَيات: غیر، دوسرا، دیگر جـاء نـي رجُـلٌ و آخَر معه: میرے پاس ایک آدمی اور ایک دوسرا اس کے ساتھ آیا۔ یہاں دوسرا بھی اس آدمی کی جنس سے ہے۔ جبکہ غیر مطلق مطابقت کے لئے ہوتا ہے۔ کنایہ کے طور پر کہا جاتا ہے: أَبْعَدَ اللّٰهُ الآخَـرَ: اللہ اس شخص کو دور کرے جو ہم میں سے نہیں ہے۔ الآخِر جمع آخِرون م أُخْرَى جمع أُخْرَيات: دوسرا پچھلا (پہلے کی ضد) لاافعلُهُ آخِرَ الدهر و أُخرى الليالي: میں اس کو کبھی نہیں کرونگا۔ الأُخُر: پچھلا حصہ۔ شَقَّ الثوبَ أُخُرًا و من أُخُر: اس نے کپڑے کو پیچھے سے پھاڑا۔ الأَخَـرَة: دیر۔ جَـاءَ أَخَـرَةً و بـأَخَـرَةٍ: وہ آخر میں آیا۔ الآخِـرَة و الأُخْرى: ابدی زندگی کا گھر۔ أُخْرَوِي: ابدی زندگی کا، ابدی زندگی کے متعلق۔ المُؤْخِر جمع مَـآخِر: کنپٹی کے رخ میں آنکھ کا گوشہ۔ مُؤخَّر الشيء: چیز کا پچھلا حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ مُؤَخَّر السفينة: جہاز یا کشتی کا پچھلا حصہ۔ المِئْخَار جمع مَـآخِير من النخل (ب): کھجور کا درخت جس کا پھل موسم سرما کے آخر تک رہے۔ المُتَـأَخِّـر: تقالید اور موروثی عادت چھوڑ کر اپنے زمانہ کی ثقافت اور تہذیب کے ہمرکاب نہ ہونے والا، پسماندہ (اس کی ضد المعاصرُ لزمانه یا العصری ہے)۔

۲۔ الأُخُور: اصطبل (فارسی لفظ)

○ أَخَّر ہ میں دیر کرنا، کو ملتوی کرنا، کو موقوف رکھنا ـــ ہ/ ہ کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو تھامے رہنا، سنبھالے رہنا۔ ـــ ہ کو کم کرنا، آہستہ کرنا۔ ـــ ہ عن: کو اس کے وقت کے بعد بھی لٹکائے رکھنا، کو سے زیادہ عرصہ تک (جاری) رکھنا۔ ـ ہ/ ہ کو دیر کرانا ـ ہ: کو کھٹائی میں ڈالنا، زینت طاق نسیان بنانا ـ ہ: (گھڑی کی سوئیاں) پیچھے کرنا ـ ہ کو عرصہ ... بعد تک ... کرنا، برخاست کرنا، ... کردینا، موقوف کرنا تَأَخَّرَ: دیر سے پہنچنا، تاخیر ہونا، ـ عن: سے پیچھے رہنا، (قرضہ) ادا کرنے میں ناکام رہنا، قرضہ ادا کرنے میں دیر کرنا، میں دیر کرنا، ہچکچانا۔ ـــ: عہدے (ملازمت) سے معطل ہونا۔ برخاست ہونا سبکدوش ہونا۔ لـم یتاخر بعد ذلك من ان: اس کے بعد وہ سے، پہلے زیادہ دیر نہیں ہچکچایا، تھوڑی دیر میں، وہ ـــ آخِر: جمع آخِرون و آخِرات و اَوَاخِـر: آخری گزشتہ، سب سے زیادہ، انتہائی، حد درجہ، از حد، شدید، حد، خاتمہ، انجام، کاغذ کا پیندا، الآخِر و الآخِرةِ: آخرت۔ الـدار الآخِرة: ابدی زندگی کا گھر۔ اِلی آخِرِهِ: و غیـره عـلـی هذا القياس۔ آخِرَ الأَمر: آخیر کار، انجام کار، بالآخر، آخر میں، تاہم، پھر بھی، آخِـرَ الـدهـر: ہمیشہ آخر الزمان: وہ وقت جب انصاف کا دن متوقع ہے، دنیا کا خاتمہ، عـن آخِره: آخر تک، مکمل طور پر۔ دُمِّرَ عن آخِـره: مکمل طور پر تباہ ہو جانا، نقشہ سے محو ہو جانا۔ من آخره: پیچھے سے۔ ماله آخر: لامحدود، غیر مختتم، لامتناہی، فـی آخـر الآخِـر: پھر بھی، تاہم، اواخـر الشهـر: مہینہ کے آخری دس دن اخیـرًا و لیـس آخـرا: آخری بات مگر اہمیت میں یہ بھی کچھ کم نہیں۔ آخر میں مگر موخر نہیں۔ الآخرة: ابدی زندگی۔ آخرت آخَـر مونث أُخْـرَى جمع أُخَـر: (اور آخَـرون یا أُخْـرَيَـات): ایک دوسرا، ایک اور، الآخَـر: دوسرا (شخص یا چیز) اور (شخص یا چیز) مَـرَّةً أُخْرَى: ایک مرتبہ اور هـو الآخـر، هي الأُخْرَى: وہ (مرد) بھی، وہ (عورت) بھی۔ انـا الآخَـر: میں بھی، اِن كانت الأُخْرَى: ورنہ، اور طرح من آن الی آخَر: وقتًا فوقتًا مـن سنة اِلی اخری: سال بسال۔ بینَ فَتـرَةٍ و اخـرى: وقتًا فوقتًا، کبھی کبھار، آوِنَةً ...... اخـرِى: کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ الأُخـری: آخرت، ابدی زندگی أُخْـرَوِی: آخرت کے متعلق، آخرت کا۔ اخیـر: آخری، اخیری، تازہ ترین، جدید ترین، سب سے پیچھے دو کا دوسرا۔ اخیـرًا: آخرکار، انجام کار، بالآخر، آخر میں، پھر بھی، تاہم، حال ہی میں، کچھ عرصہ قبل، چندروز پہلے۔ تَأَخُّر: (کسی ملک کی) پسماندگی ترقی پذیری۔ مُؤَخَّر: پچھلا حصہ، دم، سرا، بحری جہاز یا کشتی کا دنبالہ، کسی رقم کا بقیہ جو بعد میں ادا کیا جانا مطلوب ہو) مـؤخَّـرًا: حال ہی میں، کچھ عرصہ قبل، چندروز پہلے، آخرکار، انجام کار، بالآخر۔ مُؤَخَّـرة: (فوج کا) عقب، پیچھے کے مورچے، پچھلی صفیں (فوج کی)، بحری جہاز کا دنبالہ۔ مُتَأَخِّر: دیر سے آنے والا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بعد از وقت دیر لگایا ہوا، لٹکا کر رکھا ہوا۔ —— عن : سے بعد ہونے والا، پیش آنے والا۔ -: پیچھے، دوسروں کے بعد، بعد از وقت، پسماندہ، ترقی پذیر، پیچھے رہنے والا، قانون سے بھاگا ہوا۔ الـمُتَـاخِـرون: جدید مصنفین۔ قلم کار وغیرہ (اس کی ضد المقدمون ہے) المتاخرات: بقایا، سابقہ ادائیگی کے بعد باقی رقم جو واجب الادا ہو۔ البلدان المتاخرة: ترقی پذیر ممالک، پسماندہ ملک۔

اخط: الأُخْطُبوط (ح): دیکھو اخبوط۔

اخل: اَخِيليا (ن). ایک پھولدار پودا، جس کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں اور مشرق وسطی میں عام ہیں۔

اخن: اَخِيُون (ن): ناگ پھنی: ایک پودا، طب میں سینہ سے گاڑھا تھوک نکالنے اور پیشاب لانے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے

اخا ۱۔ اَخا۔ اُخُوَّةً و آخَى إخاءً و مُؤاخاةً و إخاوَةً ہ: کا بھائی یا دوست ہونا تَـآخَـى ہ: کو بھائی بنانا، یا بھائی کہہ کر پکارنا۔ تَآخیا: باہم ایک دوسرے کا بھائی بننا —— الاخ و الأخ و الأخو والأخوُ تثنية أخوان جمع إخوة و أخوة و إخوان و أخوان و أخون و آخاء: بھائی (الإخوة (جمع اخ کی) — من النسب: نسبی بھائی۔ کہا جاتا ہے۔ هولاء اخوة فلان: یہ فلان کے نسبی بھائی ہیں) ساتھی، دوست، کہا جاتا ہے الإخوان اخ کی جمع) دوستی کے لحاظ سے بھائی۔ کہا جاتا ہے هولاء اخوان صفا: وہ خلوص کے بھائی ہیں)۔ قبیلہ، دنیا، صنعت، معاملہ وغیرہ میں دوسرے کے ساتھ ہر شرکت کرنے والا۔ راہبوں کی رائے میں الاخوة: وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک بطور پادری صلیب کا نشان نہ بنایا ہو اور یہ ابتدائی اور طالب علم ہوتے ہیں یا جو کبھی صلیب کا نشان نہ بنائیں۔ یہ لوگ عملی اخوة ہیں۔ اخوى واخِيّ: (نسبت کیلئے) یعنی بھائی کا، بھائی کے متعلق، برادرانہ اخوِيّه: بھائیوں کی جماعت خواہ دینی ہو یا غیر دینی۔

۲۔ اخى للدابّة: جانور کو باندھنے کے لئے حلقہ دار رسی بنانا۔ الأخِيّة والآخِيّة جمع اواخى و اخايا و اواخ: جانور کو باندھنے کی حلقہ دار رسی جو زمین میں گڑی ہوئی کھونٹی سے بندھی ہوتی ہے۔ شدَّ اللّٰهُ بينكما أواخي الإخاء: اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان بھائی بندی کے علاقہ کو مضبوط کرے۔

۳۔ تاخى و توخى الشيءَ: کا قصد کرنا، کو تلاش کرنا، دیکھو (و خ ی)۔

○ آخاه: کے ساتھ بھائی چارا کرنا، رشتہ اخوت قائم کرنا، کے ساتھ بھائیوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا یا شریک ہونا۔ تآخى: بھائی یا دوست کی طرح کام کرنا، یا آپ ایک کو بھائی یا دوست کی طرح ظاہر کرنا۔ اخ جمع إخوة واخوان: بھائی، ساتھی، پڑوسی، دوست جمع إخوان: خصوصاً کسی جماعت کے رکن بھائی (جیسے پیر بھائی جو ایک پیر کے معتقد ہوں) الاخوان: وہابی فرقہ کا مذہبی بھائی چارا، جو کردار میں جنگجو ہیں۔ یہ فرقہ ابن سعود نے ۱۹۱۰ء میں قائم کیا تھا۔ یا اخي: میرے پیارے دوست! اخو ثقة: قابل اعتبار، بھروسہ کے لائق اخ شقيق: سگا بھائی۔ اخت جمع اخوات: بہن، ہم اصل یا متجانس (لفظ)، ہم زاد، ہم منصب۔ اختها: دو میں سے دوسری، اس کی ساتھی، اس کی ہم مرتبہ (مونث اسم کے بعد)۔ خُوَى: چھوٹا بھائی۔ اخوِي: برادرانہ دوستانہ (اخوِيّة: بھائی چارا، بھائی بندی، ہم عقیدگی بطور (مذہبی جماعت) إخاو اخوة: بھائی چارہ، مواخات، بھائی بننا، برادری، برادرانہ تعلقات، ایک ہی عقیدہ کے لوگ۔ اِخاوَة: بھائی چارہ، برادری بھائی بندی، برادرانہ تعلقات۔ مذہبی جماعت۔ ایک ہی عقیدہ کے لوگ۔ مؤاخات، میل ملاپ، میل جول تآخٍ: مواخات، میل ملاپ، میل جول۔

○ اُخور: اصطبل، کھلیان، غلہ گودام۔

اَدّ: ادَّ ــِ اُدًّا ہ الويل: پر مصیبت کا اچانک آنا۔ —— ہ الأمرُ: پر بھاری اور دشوار ہونا۔ —— الرجلُ في الأرض: زمین پر چلنا، سفر کرنا۔ تأدَّدَ الامرُ: بوجھل اور مشکل ہونا صفت: ادِيد۔ الإدّ والإدَّة جمع إداد و إدَد: مصیبت۔ دشوار کام، ہولناک واقعہ۔

○ امر اداد: دہشتناک اور برا کام۔

ادب: ۱۔ ادُبَ ــُ ادَبًا: اچھی تربیت والا، باشائستہ ہونا۔ ادَّبَ ہ: کو مہذب بنانا، شائستہ بنانا (صفت مُؤدِّب) کو کسی جرم پر سزا دینا۔ تأدَّبَ: اچھی تربیت پانا، ادب و تہذیب سیکھنا۔ — بہ: کی اقتداء کرنا۔ — عن فلان: کے اخلاق اپنانا۔ اِستأدَبَ بمعنی تأدّب۔ الأدَب جمع آداب: وہ اخلاقی ملکہ جو انسان کو ہر ناشائستہ بات سے باز رکھے، اچھی روش، اچھی دانش۔

۲۔ آدَبَ اِيْدابًا السلطانُ البلادَ: بادشاہ کا ملک کو عدل و انصاف سے بھر دینا۔

۳۔ ادَبَ ــُ ادْبًا: صاحب ادب ہونا صفت: ادِيب جمع اُدَباء [illegible] ادب سیکھنا الأدَب جمع الآدَب: الآداب کا اطلاق عموماً ہر قسم کے علوم و فنون پر ہوتا ہے یا ان کے کسی دلچسپ حصہ پر۔ کسی چیز یا شخص کی شایان شان بات کو بھی اداب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے آداب الدرس، آداب القاضی وغیرہ۔ علم الادب وہ علم جس کے ذریعے بول چال اور تحریری غلطیوں اور لغزشوں سے بچا جا سکے۔

۴۔ أَدَبَ ــِ أدْبًا و آدَبَ إيدابًا: دعوت کا کھانا تیار کرنا۔ — ہ: کو دعوت میں بلانا۔ کہا جاتا ہے: ادَبَهم على امر: اس نے سب لوگوں کو ایک معاملہ پر جمع کیا۔ الادبة و المَادبه و المادُبة جمع مآدِب: دعوت یا کسی تقریب کا کھانا، کہا جاتا ہے: اقام مادبةً على شرف فلان: اس نے فلاں شخص کے اعزاز میں دعوت کی۔

○ ادَبَ مادَبَةً: دعوت کا انتظام کرنا، عصرانہ یا عشائیہ دینا۔ آداب ہ: کو بطور مہمان مدعو کرنا تأدّب ب: سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تأدَّب بادبه: کی اخلاقی مثال پر عمل کرنا۔ ادب جمع آداب: کلچر، شستگی، اچھی پرورش یا تربیت، اچھے ڈھنگ، سماجی نوازشات، آداب مجلس، ذوق سلیم، خوش اسلوبی، خوش اطواری، خوشنمائی، زیبائی، انسانی ہمدردی، ادبی مطالعے اور تحریریں، بیت الأدب: بیت الخلا قليل الادب و عديم الأدب: بدتہذیب، غیر مہذب، ناشائستہ، بدتربیت، اکھڑ، الادب العامی: عوامی ادب، رجال الادب: اُدبا، ادیب لوگ، اہل علم، علماء، كُلِّيَة الآداب: آرٹس کالج آداب: قواعد، طرز عمل کے قواعد۔ آدابُ السلوك: آداب مجلس کے قواعد۔ آداب محفل، پیشہ ورانہ آداب۔ الآداب: سلیقہ، شائستگی، اخلاق، سیرت۔ ادبي: اخلاقی، ادبی واجب ادبی: اخلاقی فرض۔ ادَبِيًّا و مادِيًّا: اخلاقی اور مادی طور پر الفلسفة الادبية: علم اخلاق، اخلاقیات، اخلاقی علم۔ ادَبِيّات: لٹریچر۔ ادبی مطالعے اور تحریریں (مضامین) ادبخانة: بیت الخلاء جمع ادبخانات: اديب: لکھاری، قلم کار، لکھنے والا مصنف، ادیب، مہذب، تعلیم یافتہ، اچھی تربیت والا، خوش اطوار، خوش ذوق ادِيبة: مصنفہ، لکھنے والی مادبة: خاص ضیافت، بڑی دعوت، عصرانہ، عشائیہ، مجلس التأديب: انضباطی مجلس۔ تأديبی: تادیبی قضية تأديبية: تادیبی کارروائی آدِب: میزبان۔ مؤدِّب جمع مؤدِّبون: مدرس، معلم، (قرآنی مدرسہ کا) مؤدَّب: خوش اطوار، شائستہ، مہذب، با اخلاق۔

○ اُدْرَة: آنت کا خصیہ میں اتر جانا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ اَدِرْنَة شمالی مغربی ترکیا کا ایک شہر۔

○ الادریاتیك بَحرُ الأَدْرِیاتِیك: بحرایڈریاٹک۔

ادم ا۔ ادَمَ ــِ اَدْمًا الخبزَ: روٹی کو سالن سے تر کرنا۔ صفت مفعولی: مادوم و ادِیم (سالن میں تر کی ہوئی روٹی) اِئْتَدَمَ: روٹی کو سالن کے ساتھ کھانا، الإدام جمع آدام و اُدُم: ہر موافق اور نرم چیز۔ سالن۔ الأُدْم: ہر وہ شے جس کا سالن بنایا جا سکے۔

۲۔ اَدَمَ ــِ اَدْمًا أَهلَهُ: اپنے اہل کے لئے نمونہ بنا اَدَمَ و آدم بـ ـا متخاصمین: دو جھگڑنے والوں میں صلح کرانا اور موافقت پیدا کرنا۔ آدم جمع اَوَادِم: حضرت آدم علیہ السلام کا نام، افرادِ جنس۔ (نسبت کیلئے): آدمِیّ۔ الأُدْمَة: قرابت، وسیلہ۔

۳۔ اَدِمَ ــَ اَدَمًا و اَدُمَ ــُ اُدْمَةً: گندم گوں ہونا۔ الآدِم: مونث اَدْمَاء جمع اُدْم: گندم گوں۔ الأُدْمَة: گندم گونی۔

۴۔ الأَدَمَة و الأدَم: چمڑے کا اندرونی یا بیرونی حصہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ اِدامُ قومِهِ و أَدَمُ بنی ابیه و ادَمَةُ قومِهِ: فلاں شخص اپنی قوم کا پیشرو اور سردار ہے جس سے اس کی قوم پہچانی جاتی ہے۔ الادِیم جمع اَدَم و اُدُم و آدمة و آدام: رنگا ہوا چمڑا۔ ــــ الضحی: چاشت کا شروع۔ ــــ السماء او الأرض: آسمان اور زمین کی ظاہری سطح۔ ــــ النهار: دن کی روشنی۔ تمام دن کہا جاتا ہے: ظَلَّ ادیمَ النهارِ صائِمًا: وہ پورے دن روزے سے رہا۔ الادَّام: چمڑے کا بیوپاری۔

○ اَدَمَ ــِ اَدْمًا ہ: روٹی کے ساتھ کوئی اضافی خوراک کھانا۔ روٹی کو کسی فالتو خوراک یا مسالہ سے مقوی کرنا۔ اِدام: روٹی کے ساتھ کھائے جانے والی کوئی چیز۔ چربی، روغن، چربی دار، یا روغنی عنصر یا مسالہ اَدَم و اَدَمَة: چمڑا۔ اَدِیم: چمڑا، سطح رنگا ہوا چمڑا، کمائی ہوئی کھال۔ ادیمُ الارض: زمین کی سطح۔ ادَّام: چمڑا کمانے والا۔ کھالیں رنگنے والا، دباغت کرنے والا۔

آدَم: حضرت آدم علیہ السلام۔ ابن آدم: انسان۔ آدمی: آدمی، نرم دل، نیک دل، شریف النفس، غریب، کم مرتبہ، ناکافی، جمع آدَمِیُّون و اَوَادِم: انسان۔ آدَمِیَّة: انسانی ہمدردی، انسانی محبت، انسان دوستی، حقوق انسانی کی حمایت، مذہب انسانیت (جس کا پیرو خدا کا قائل نہیں ہوتا اور صرف انسانی فلاح و بہبود کو مقصد حیات سمجھتا ہے۔ علم و ادب کا مطالعہ۔

ادا ا۔ أَدَا ــُ اُدُوًّا الثمرُ: پھل کا پکنا۔ ــ اللبنُ: دودھ کا جمنا یا گاڑھا ہونا۔

۲۔ أَدَا ــُ اُدُوًّا اللبنَ: دودھ بلونا۔

۳۔ أَدَا ــُ اُدُوًّا للرجُلِ: کو دھوکا اور فریب دینا۔ تَأَدَّى و تَآدَى: آلہ بنانا، تیار کرنا، زمانے کے حوادث کے لئے تیار ہونا، سامان مہیا کرنا۔ الأَداة جمع اَدَوات: آلہ۔ کہا جاتا ہے: أَداةُ التعبیر: زبان۔ ادوات النجارة: بڑھئی کے پیشے کے ہتھیار و اوزار۔ علم صرف میں بعض حروف کا نام جیسے: الادوات الجازمة یعنی جزم دینے والے حروف۔ الإِداوَة جمع أَداوَى: چمڑے کا ایک چھوٹا برتن۔

○ اَدَاة جمع ادوات: اوزار، ہتھیار، آلہ عام استعمال کا برتن، سامان، کسی مقصد کے لئے وقتی طور پر ایجاد کردہ چیز یا آلہ۔ وسیلہ، تجرباتی آلات، حرف (گرامر) اَداةُ الحُکم: حکومت کی مشینری۔ اداةُ التعریف: حرف تعریف (گرامر) اداة تَنفِیذِیَة: عاملہ یا نافذہ ایجنسی (agency) جمع ادوات: جس چیز سے کچھ بنایا جائے، سامان، مال، ساز و سامان، ساز و یراق، اَدَواتٌ حَرْبِیَةٌ: جنگی سامان۔ اَدَواتٌ اِحْتِیاطِیَة: پکا ساز و سامان جس پر بوقت ضرورت بھروسا کیا جا سکے۔ ادواتٌ مَنْزِلِیَة: خانگی استعمال کے برتن اور چیزیں الاَدُون: (عبرانی): خدا تعالیٰ: مسٹر، جناب۔

ادی: ا۔ أَدَى ــِ أَدْيًا الشیءَ: کو پہنچانا اَدَّى تَادِيَةً الشیءَ: کو پہنچانا۔ اَدَّى الیه الخبر: اس نے اس کو خبر پہنچائی۔ تَأَدَّى الیه الخبرُ: کو خبر پہنچنا۔ الأَداء: چیز کو اس شخص تک پہنچانا جس کو وہ بھیجی جائے۔

۲۔ اَدَى ــِ أَدْيًا ہ: کو ادا کرنا۔ اَدَّى تَأْدِيَةً ہ: کو ادا کرنا (کہا جاتا ہے: أَدَّى ما علیه مِن دَینٍ: اس نے اپنے ذمہ واجب الادا قرض ادا کیا)۔ (اَدَّى واجب الاحترام: اس نے احترام کا فرض ادا کیا)۔ تَأَدَّى له من حقه: کو اس کا حق ادا کرنا۔ الاداء: ادائیگی۔

۳۔ آدَى إیدَاءً ہ علیه: کی مدد کرنا، تیار ہونا، قوی ہونا۔ اِسْتَأْدَى آخَرَ علیه: دوسرے سے کے خلاف مدد چاہنا۔ ــ فلانا المالَ: سے مال لینا۔ ــ علیه: کے خلاف مدد کی اپیل کرنا۔

○ اَدَّى ہ/ ویا ب إلی: کسی شخص یا چیز کو تک لیجانا، منتقل کرنا، لے چلنا، پہنچانا، چلانا، ــ الی: کا باعث ہونا، کو وجود میں لانا، کو کرنا، عمل میں لانا، ــ الی ایک نتیجہ کی طرف رہنمائی کرنا، کا سبب بننا، میں ممد ہونا، کا باعث ہونا، کا مترادف ہونا، عملی طور پر کے مترادف ہونا ... ہونا، کی طرف میلان یا رجحان ہونا، کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ــــ ہ: پر عمل کرنا، کو عمل میں لانا، کو بجالانا، ادا کرنا، عہدہ برا ہونا، (مذہبی رسوم وغیرہ) ادا کرنا۔ ــ واجبَه: اپنا فرض ادا کرنا۔ ــ وظیفة: وظیفہ سرانجام دینا۔ ــــ رسالة: مشن پورا کرنا، مشن کی تکمیل کرنا۔ ــــ ماموریةً: کام انجام دینا، بجالانا، پورا کرنا۔ یمینًا: حلف اٹھانا۔ ــ امتحانًا: امتحان دینا۔ خدمةً ل/ الی: کی خدمت کرنا۔ اَدَّى السلامَ: سلام کرنا، سلامی دینا۔ تَأَدَّى إلی: کی طرف رہنمائی کرنا، کا باعث ہونا، میں ممد ہونا، کے نتائج کا سبب بننا۔ پر عمل کیا جانا، کو عمل میں لایا جانا، سر انجام دیا جانا، کیا جانا، کا کردار ادا کیا جانا۔ اِلی: میں پہنچانا، میں لیجایا جانا۔ اِستَأْدَى ہ ہ: سے کا مطالبہ کرنا۔ اداء جمع اَداءات: (بطور أَدَّى: کے مصدری اسم کے) کوئی خدمت کرنا، جستجو، تعاقب، کے حصول کی کوشش، عمل، کام، کرنا، تعمیل، کاروائی، بجا آوری، عمل درآمد، (فرض کی) سر انجام دہی، کر دکھانا، بروئے کار لانا، حصول، پورا کرنا، ادا کردگی، پورا کرنا، ادائیگی حُسنُ الأَداءِ: فن یا نغمہ نگاری، نغمہ گری کی اچھی ادائیگی تادیة: کوئی خدمت کرنا، تعاقب، تلاش، جستجو، انجام دہی، بجا آوری، تعمیل، کارروائی، انصرام، (فرض کی) بجا آوری، بروئے کار لانا، کر دکھانا، حاصل کرنا، تعمیل کرنا، بجالانا، پورا کرنا، فرض بجالانا، پورا کرنا، ادائیگی، مُؤَدًّى: کام، تفویض، فرض منصبی، منصب، عہدہ، خدمت، معنی، مراد، مطلب، مفہوم، منشا، موجود خیال۔

اِذ: ا۔ اِذ: زمانہ ماضی کا ظرف جس کے بعد صرف جملہ واقع ہوتا ہے۔ کبھی یہ جملہ محذوف بھی ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ تنوین آجاتی ہے۔ جیسے: معنی جملہ کم الموت فحینئذٍ تعلمون: یہ اصل یوں ہے: فحین اذا یحیی تعلمون۔ اِذ: مفاجات کے لئے بھی آتا ہے۔ جیسے بینما انا جالس اذ جاءَ زیدٌ: (میں بیٹھا ہوا تھا، کہ اچانک زید آگیا) کبھی لام تعلیل کے معنے دیتا ہے جیسے: ضربت ابنی إذ اساء (یعنی لانه اساءَ) میں نے اپنے بیٹے کو مارا کیونکہ اس نے بدی کی تھی)۔

۲۔ اذا: زمانہ مستقبل کے لئے ظرف ہے۔ اور شرط کے معنے دیتا ہے اِذا اجتهدت نجحت: جب تم کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حرف مفاجات کے طور پر بھی آتا ہے۔ جیسے خرجت فإذا اسدٌ بالباب: میں نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ پر شیر ہے یا میں نکلا تو اچانک دروازہ پر شیر تھا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
maarifat.com
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۳۔ إذمـــا حرف شرط بمعنی إن اور دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ جیسے: إذ ماتقُمْ اقُمْ: اگر تم کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہوں گا۔

۴۔ إذن و إذا: حرف جواب وجزا یا حرف مکافات ہے۔ مثلاً: ازورك میں تمہیں ملنے آؤں گا تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے اِذن اکرمَك: تو میں آپ کا اکرام کرونگا۔ اس وقت میں مضارع پر نصب آئیگا۔ بشرطیکہ شروع کلام میں ہو۔ اذا هـذا هـو الـصـواب (اس صورت میں بھی صحیح ہے)۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب سبب کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہو۔ اس وقت یہ غیر عامل ہوتا ہے۔

○ إذ: (اور) تب۔ إذذاك (إذاكَ): تب، اس وقت، اس وقت، ایسا کرنے میں۔

۲۔ إذ: جب، چونکہ، کیونکہ۔ اِذ أنَّ: کیونکہ، چونکہ، اس حقیقت کے پیش نظر کہ۔ اذا: اور تب، اور اچانک، جب، اگر، جب بھی، آیا، اگر إذامـا: جب، جب بھی الااذا: اگر نہ، جب تک نہ، اِذاً و اِذَنْ: تب، لہٰذا، اس صورت میں، اس سبب سے، اس وجہ سے، اس لئے۔

آذار: مارچ (کا مہینہ)

۲۔ الآذريُون (ن): سورج مکھی۔

اذن: ۱۔ أَذِنَ ـَ إذنًا و اذنا و اذانًا و أذانَةً بالشيء: کو جاننا۔ ـــ أذنًا اليه ولهُ: کی طرف کان لگانا، کو سننا، کہا جاتا ہے۔ حَدثتُهُ فاذن لی احسَنَ الاذان: میں نے جب اس سے گفتگو کی تو اس نے میری بات کو خوب کان لگا کر سنا۔ آذنَ ايـذانـا فلانـا الأمرَ وبـالأمـر: کو کی اطلاع دینا، کو سے آگاہ کرنا۔ أذّنَ تـأذِينًا بالصلاة: نماز کے لئے اذان دینا، بلانا تأذنَ: قسم کھانا۔ ـــ الأمرَ: کو جاننا۔ ـــ بـالشرّ: شر سے ڈرانا۔ الإذن: علم کہا جاتا ہے: فعلـه باذني: اس نے اس کو میری واقفی میں کیا۔ الأذان: اطلاع، اذان، بانگ الاذِين: اذان دینے والا، بانگی، موذن، کفیل، لیڈر۔ المِئذَنة جمع مآذن: اذان دینے کی جگہ، منارہ۔

۲۔ اَذِنَ ـَ إذنـا و اَذِينًا له فی الشَي: کو کی اجازت دینا، کے لئے کوئی چیز مباح کرنا، صفت مفعولی: مـاذون لـه۔ إستـاذنَهُ: سے اجازت چاہنا۔ ـــ علـيه: سے اندر آنے کی اجازت طلب کرنا الاذِين: حاجب۔ الإذن: اجازت۔ الـمَاذون: اعلیٰ علوم یا قانون کی ڈگری کا حامل المَاذونية: اعلیٰ علوم یا قانون کی ڈگری، اجازت۔

۳۔ اذنَ ـُ اذنا ہ: کے کان پر مارنا۔ أذِنَ: کان کے درد میں مبتلا ہونا۔ آذن إيـذانـا الرجُلَ: کے کان پر مارنا۔ اذنَ الولدَ: بچہ کے کان مروڑنا الاذن و الاذن (مونث) جمع آذان: تصغیر اذينه: کان (سننے کا عضو) کہا جاتا ہے: فلانٌ اُذُنٌ من الآذان: فلاں شخص ہر شخص کی بات سن لیتا ہے۔ یہ لفظ سب کے ساتھ واحد آتا ہے۔ جیسے: هی اذُنٌ وهما اذُنٌ وغیرہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے: جاء ناشرًا اذنيه: وہ غافل بن کر آیا۔ ـــ الابريقِ: لوٹے کا دستہ۔ آذان الجدی، آذان الأرنب واذان الفيل: پھولدار پودوں کے نام۔ آذان الفار: ایک پھولدار پودا، آذان الدب: ایک پودے کا نام۔ الآذن والاذانی: بڑے بڑے کانوں والا۔ الاذيـن الايسـر والأيمـن: دل کے بالاتر حصہ میں دو کڑھے۔

۴۔ آذن إيذانا العشبُ: گھاس کا سوکھنے لگنا۔

○ اَذِنَ ـَ الی: کی بات پر کان لگانا، کو بغور سننا۔ ـــ له فی: کو کسی چیز کی اجازت دینا۔ ـــ ب: کے بارے میں سننا، جاننا، سے مطلع ہونا۔ أذّنَ ب: کی طرف بلانا، کی دعوت دینا خصوصاً۔ بالصلاة: نماز کی طرف بلانا، آذان دینا۔ ـــ: (مرغ کا) ککڑوں کرنا آذنَ ب: کا اعلان کرنا، ـــ ہ ب: کسی کے علم میں کوئی چیز لانا۔ ـ ہ: کو اطلاع دینا۔ ـ: آذان دینا، ـ ہ ب: سے کچھ کرنے کا تقاضا کرنا، پر کیلئے زور دینا، کوئی نصیحت کرنا، تاکید کرنا۔ ـ ب/ ہ: کی آمد کی خبر دینا۔ ـ ب: کا پتہ دینا، کی چمک دکھانا۔ ـ أن: کو کرنے کو ہی ہونا۔ آذنَ بالسقوط (بالزوال): کے زوال، خاتمہ کی قریبی علامتیں ظاہر کرنا۔ آذَن الليل بلتنصف: یہ آدھی رات کے قریب کا وقت تھا۔ تـاذّنَ ب: کی آمد آمد کی خبر دینا، کا اعلان کرنا اِستـاذن فی: کچھ کرنے کی اجازت چاہنا (شاذ و نادر صلہ ب بھی آتا ہے)۔ ـــ علی: کے (گھر میں اندر آنے کیا) اجازت طلب کرنا۔ ـ من: کو الوداع کہنا، سے رخصت ہونا، إذن: اجازت، اختیار باذن الله: اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، جمع اذون و اذونات: پوسٹل آرڈر۔ ـــ اذن البريد جمع اذونـات البـريد: پوسٹل منی آرڈر، اذن البوستة: پوسٹل منی آرڈر۔ اذن و اذن (مونث) جمع آذان: کان (پیالے وغیرہ کا) دستہ۔ التهاب الاذن الوسطى: کان کے وسط کا متعدی مرض۔ آذان: آذان۔ اذيـنـه: چھوٹا کان۔ مـاذون: مجاز، بااختیار، محدود قانونی حقوق والا غلام مـاذون شـرعـی: نکاح خواں۔ مَاذونية: رخصت، لمبی چھٹی، طویل رخصت،

marfat.com

مُؤَذِن: موذن، اذان دینے والا۔

اذی: أَذِيَ ـَ اذی و اذاة: تکلیف واذیت پانا۔ آذی إيذاءً الرجُلَ: کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا۔ تـاذی: تکلیف اٹھانا۔ الأذی والاذِيّة والاذاة: ضرر خفیف، الأذِيّ: بہت تکلیف برداشت کرنے والا، بہت تکلیف دینے والا۔ الآذيّ: موج دریا۔

○ اَذِیَ ـَ: نقصان اٹھانا، تکلیف پانا اَذّی ہ: کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، پر ظلم کرنا، کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، کو برافروختہ کرنا، لايُـؤذِی: بے ضرر، جو قابل اعتراض نہ ہو۔ اذی واَذاة و اذِيّة: نقصان، تکلیف، دکھ، زخم، ضرر، پریشانی، برہمی، جھنجھلاہٹ، ظلم، شکایت، وجہ، شکایت، توہین، جرم، گناہ، جذبات کو ٹھیس، ناراضگی، غصہ، رنجش، اِذاية: نقصان، تکلیف، ضرر رسانی، نقصان دہی، ايـذاء: نقصان، ضرر، عصبیت، تعصب، بدظنی، بدگمانی، مُؤذٍ: نقصان دہ، تکلیف دہ، زیاں کار، مضر، نقصان رساں، ہارج، ہتک آمیز، متعصبانہ، ناراض کن، تکلیف دہ، گراں، ناگوار، توہین آمیز، دل شکن، ناپسندیدہ، نفرت انگیز۔

○ اِراتيقی و اراتيكی جمع اراتِقة: ملحد، بدعتی۔

○ آرامی: آرامی۔

ارب: ۱۔ أرِبَ ـَ ارَبًا: ماہر ہونا صفت: ارِب و اريب: مونث اريبَة۔ ـ بالشیء: کا ماہر ہونا، میں دانا و بصیر ہونا ارُبَ ـُ ارابَةً و إربًا: عقلمند و دانا ہونا صفت اريب و ارِب مونث اَرِيبَة۔

۲۔ ارِبَ ـَ إليه: کا محتاج ہونا۔ ـ بالشیء: کسی شی کا بہت دلدادہ اور مشتاق ہونا۔ الأرَب جمع آراب: انتہا، حاجت، ضرورت، الإرْب جمع آراب: حاجت۔ المَارُبَة جمع مآرِب: حاجت (مأربة کی را کی تثلیث کے ساتھ)

۳۔ ارَبَ ـِ اربًا العقدَ (ب): گرہ مضبوط لگانا۔ أرّبَ الشيَّ: کو مضبوط کرنا اور محکم بنانا تـارَّبَـتِ العقدةُ: گرہ مضبوط ہونا۔ ـ الامرُ: کام کا دشوار ہونا۔ الأُرْبَة جمع ارَب: مضبوط گرہ، گردن کی ٹائی، نیک ٹائی۔

۴۔ آرَبَـهُ مُؤارَبَةً: کو فریب دینا، دھوکا دینا۔ تـارَّبَ: تکلیف و بناوٹ سے زیرک بننا۔ إستـارَبَ: کینہ چھپا کر مدارات کرنا، مغالطہ دینا۔ قرض لینا، الإرب والإربة: چالاکی، حیلہ۔

۵۔ أرِبَ ـَ الرجُلُ: کے اعضاء کا گر جانا اَرَبَ ـِ اربًا الـرجُلَ: کے کسی عضو پر مارنا اَرَّبَ الشـاةَ: بکری کا جوڑ جوڑ الگ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الإرب جمع آراب: عضو، کہا جاتا ہے: قطعتُ الذبيحة إربا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اِربًا: میں نے ذبح شدہ جانور کا ایک ایک عضو الگ الگ کر دیا۔ الأُرْبِيَّة: ران کی جڑ۔

۲- إِرْبِيَان و رُوبِيَان: جھینگا مچھلی۔

○ أَرِبَ ـ أَرَبًا ب: میں ماہر ہونا، قابل ہونا، لائق ہونا۔ أَرَّبَ: (گرہ) کو مضبوط کرنا۔ آرَبَ: کو ذہانت میں مغلوب کرنے کی کوشش کرنا۔ آرَبَهُم: کو حکمت عملی سے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ أَرَب جمع آرَاب: کی خواہش، آرزو، کی ضرورت، ــ في: غرض، مقصد، مطمح نظر، علت غائی۔ إِرْب جمع آرَاب: عضو، ــــ: مَزَّقَهُ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پرزے پرزے کرنا۔ إِرْبًا إِرْبًا: مہارت، ہوشیاری، سوجھ بوجھ، چارہ سازی، پھرتی، تیز فہمی۔ إِرْبَة: جمع أُرْبَة: أُرَب: گرہ، گانٹھ، لمان۔ أَرِيب: ماہر، سوجھ بوجھ رکھنے والا، خوش تدبیر، ہوشیار، چتر، سیانا، ذی شعور، عاقل، فہیم، دانشمند، تیز فہم۔ مَطْرَب جمع مَآرِب: آرزو، خواہش، مقصد، غرض، رخ نظر، علت غائی۔

إِرْبِيل: قدیم نام اربیلہ، شمالی عراق کے ایک شہر کا نام۔

أَرْتوازِي: فواری (کنوان)۔

ارث: أَرَّثَ: (آگ) جلانا۔ ــ بينهم: لوگوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا۔ تَأَرَّثَتِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ الأُرْثَة و الإِراث: ایندھن۔

۲- إِرث: دیکھو ورث۔

○ أَرَّث بين: کے درمیان، مابین نا اتفاقی کا بیج بونا۔

أُرثوذُكسي: راسخ الاعتقاد، کٹر عام عقائد کا ماننے والا۔ الأُرثوذُكسية: ارتھوڈکس چرچ۔ الروم الأُرثوذُكس: یونانی آرتھوڈکس چرچ۔

ارج: ۱- أَرِجَ ـ أَرَجًا و أَرِيجًا و تَأَرَّجَ: خوشبو دینا، مہکنا صفت: أَرِج۔

۲- أَرَجَ ـ أَرْجًا الحقَّ بالباطل: حق و باطل کو ملانا۔ أَرَّجَ القومَ و بينهم: لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔ صفت: أَرَّاج ــ النارَ: آگ کو جلانا، روشن کرنا۔

۳- أَرِجَ ـ أَرَجًا الناسُ: لوگوں کا بلند آواز سے رونا۔

○ أَرَج: خوشبو، أَرِج: خوشبودار۔ أَرِيج: خوشبو۔

ارجح: تَأَرْجَحَ: ہلنا، جھومنا۔ مُتَأَرْجِح: بدلتے رہنے والا، اتار چڑھاؤ والا۔

ارجن: ۱- أُرْجُوان (ن): ایک پھولدار درخت، سرخ رنگ، سرخ رنگ کپڑے الرُّقعة الأُرْجُوانِية: نثری قطعہ میں خوبصورت فصیح ادبی اظہار (انگریزی زبان میں)

۲- ارجون (ك): ایک نادر گیس (Argon)

○ الارجنتين: ارجنتينا: Argentina (ایک ملک کا نام)۔

ارخ: ۱- أَرَّخَ تأرِيخًا و آرَخَ مُؤارَخَةً الكتابَ او الحادثَ: کا زمانہ متعین کرنا۔ التارِيخ و التأريخ جمع تَوارِيخ: وقت کا بیان۔ تاريخ الشيء: کسی چیز کے ہونے کا وقت۔ علم التاريخ: واقعات و حادثات اور ان کے اسباب کے بیان کا علم جو ان کی تاریخ پر مشتمل ہو۔ المُؤَرِّخ: تاریخ دان، تاریخ نویس۔

۲- الأرخبيل: آس پاس واقع جزائر کا مجموعہ۔

۳- الأرخيولوجيا ارکيولوجيا: علم آثار و فنون قدیمہ یا عتیقہ، أَثَرِيات (Archaeology)

○ أَرَّخَہ: (خط وغیرہ پر) تاریخ ڈالنا، کی تاریخ لکھنا، تاریخ: خط وغیرہ پر تاریخ ڈالنا جمع تَوارِيخ: تاریخ، وقت، تاریخ، سرگزشت واقعات کا روزنامچہ، مرتب تاریخی واقعات، تاریخی مواد۔ تاريخ الحياة: سوانح عمری، تذکرہ، سرگذشت، (درخواست کے ساتھ) تعلیمی کوائف (Curriculum vitae) تاريخ عام: تاریخ عالم۔ علماء التاريخ: تاریخ دان۔

تاريخي: تاریخی۔ مُؤَرِّخ جمع مُؤَرِّخون: تاریخ دان، تاریخ نویس، مورخ، وقائع نگار، روزنامچہ لکھنے والا، تاریخی واقعات ترتیب دینے والا۔ مُؤَرَّخ: مورخہ Dated۔

أَرْخَبِيل: مجمع الجزائر (Archipelago)۔

أَرْخَن جمع أَراخِنَة: Archon (جمع) معززين: (Notables)

اردب: الإِرْدَبّ جمع أَرادِب: مصر میں ایک بڑا پیمانہ جو ۲۴ صاع کے برابر ہے۔

○ إِرْدَبَّة: گندے پانی کا چوبچہ۔

○ الأُرْدُن: (دریائے) اردن، (ملک) اردن۔ أُرْدُني: اردنی، اردن کا (باشندہ)۔ المَمْلَكَةُ الأُرْدُنِية الهاشمية: اردن کا سرکاری نام۔

○ أَرْدُواز: سلیٹ۔

ارز: ۱- أَرَزَ ـ أَرْزًا و أُرُوزًا: سکڑنا، سمٹنا ــ الحيّةُ: سانپ کا اپنے بل میں پناہ لینا کہا جاتا ہے۔ فلانٌ يأرز الى وطنه: فلاں شخص گھوم گھام کے اپنے وطن لوٹ آتا ہے۔ آرِز: جڑ پکڑنے والا، مضبوط، شجرة آرزة: وہ درخت جو جڑ پکڑے۔ آرِيز: القوم: قوم کا سردار۔

۲- أَرَزَ ــ الليل: [illegible] أريز و

آرز و أروز: کہا جاتا ہے بتنا ليلةً آرِزةً يعني يأرز من فيها لشدة بردها: ہم نے ایسی ٹھنڈی رات گزاری کہ سخت ٹھنڈ کی وجہ سے ہر شخص سکڑ رہا تھا۔ أَرَزَت اصابعه من البرد: اس کی انگلیاں سردی کے سبب سکڑ اور ٹھٹھر گئیں۔

۳- الأَرُز الآرُز والأُرُزّ والرُّزّ (ن): چاول۔ الأَرْز (ن): صنوبر کا درخت الأَرْزِيَّة (ن): صنوبر کا درخت۔

○ أَرْز: (واحد ارزہ): صنوبر۔ أَرُزّ: چاول۔

○ ارس: الأَرِسْتُقْراطي: اونچے طبقے کا فرد الأَرِسْتُقْراطِيَّة: اونچا طبقہ، طبقہ امراء۔ اشراف، اشرافیہ۔

○ أَرَسَ ـ أَرْسًا: کاشتکار ہونا۔ إِرِّيس و أَرِيس: کاشتکار۔ کسان۔

○ أَرِسْطُو: ارسطو (Aristotle)

ارش: ۱- أَرَشَ ـ أَرْشًا ہُ: کو بھڑکانا۔ اکسانا، جوش دلانا۔ أَرَّشَ بينهم: میں فساد ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا۔ ــ الحربَ او النارَ: جنگ کی آگ بھڑکانا۔ یا آگ بھڑکانا۔ الأَرْش جمع أُرُوش: رشوت۔

۲- أَرَشَ ـ أَرْشًا ہُ: کو رشوت دینا الأَرْش جمع أُرُوش: خون بہا۔ دیت۔

۳- أَرْشِيمَنْدريت: عیسائی کلیسہ کے معروف رتبہ کا حامل۔

○ ارش: ہرجانہ، تاوان، جرمانہ، خون بہا، دیت۔ ارشي اليسقوبس: لاٹ پادری۔ ارشيدوق: رئیس اعظم، آرچ ڈیوک، ارشيدوقة: رئیسہ (عظمیٰ) (ارشیدوق کا مونث)۔

ارض: ۱- أَرِضَ ـ أَرَضًا و أَرُضَ ـ أَرَاضَةً المكانُ: جگہ کا سرسبز اور خوش منظر ہونا صفت اريض۔ أَرَّضَ الكلامَ وغيرَهُ: کلام وغیرہ کو آراستہ کرنا اور تیار کرنا۔ تَأَرَّضَ بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا، جم کر رہنا۔ ــ لكذا: کے درپے ہونا۔ إِسْتَأْرَضَ السحابُ: بادل کا زمین سے قریب ہو کر پھیل جانا اور جم جانا۔ الأَرْض جمع أَرَضون و أُرُوض و اراض و آراض: زمین (سیارہ جس پر ہم رہتے ہیں)۔ کہا جاتا ہے: أتانا ابنُ ارضٍ: ہمارے پاس وہ اجنبی آیا جس کے نسب کا کوئی پتہ نہیں۔ ارضُ النعل: جوتے کی تلی۔ الأرضي شوكي (ن): زمین پر پھیلنے والا ایک کانٹے دار پودا۔ جسے خرشوف بھی کہا جاتا ہے۔

- أَرِضَتْ ـ أَرَضًا الخشبةُ: لکڑی کا دیمک خوردہ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہونا۔ الأرَضَة جمع ارَض (ح): دیمک، لکڑی کھانے والا کیڑا۔

○ ارْض (مونث) جمع ارَاضٍ و ارَضُون: زمین۔ ملک، علاقہ، خطہ، قطعہ زمین، مٹی، الارضُ السُفْلَی: نشیبی دنیا الارضُ المُقَدَّسَة: مقدس سرزمین، فلسطین، أرضی: زمین کا، کرۂ زمین کا، کرۂ ارض کا۔ مٹی کا، ملک کا، میدان میں یا میدان کے قریب واقع، زمینی، دنیاوی، دنیوی، زیرِ زمین، زمین دوز، ارْضِی شوکی: خرشف ہاتھی چوک (ایک قسم کا پودا)۔ ارَض (اسم جنس واحد واحد ارَضَة: دیمک، ارْضِیَة جمع ارْضِیَات: فرش، منزل، (پھولدار کپڑے کی) زمین، نچلی منزل۔ پہلی منزل (Ground Floor, Ist Floor)۔ گودام کا کرایہ، ارْضُرُوم: ارض روم (شمالی مشرقی ترکی کا شہر)۔

ارط: ۱۔ الأرْطِی (ن): واحد ارطاة جمع ارَاطَی و ارَاطٍ و آراط: ایک درخت جس کا پھل عناب کے مشابہ ہوتا ہے۔

۲۔ ارْطُماسیا (ن) ایک پھولدار پودا۔

۳۔ ارْطُنِیا (ن) ایک جاپانی الاصل پھولدار پودا۔

○ ارْطَة: (نیز اوُرطہ) جمع ارَط (اوُرَط): فوج، بٹالین (Battalion)

○ ارْطَقَة جمع أرْطَقَات: مسیحی عقائد کے خلاف، بدعت، کفر، خلافِ شرع (رائے)

ارغ: ۱۔ الأرْغل (مو) ایک قسم کی بانسری۔

۲۔ الأرْغُن والأرْغُنُون (مو): آرگن، ایک قسم کا باجہ۔

ارق: ۱۔ أرِقَ ـَ أرَقًا و اِئْتَرَقَ: رات میں نیند نہ آنا صفت أرِق و آرِق و ارُوق و ارُق۔ ارَّقَ تارِیقًا و آرَق اِیْرَاقًا ہ: کو بیدار رکھنا۔

۲۔ الأرَق (ح) ایک قسم کا کیڑا جس کا جسم لیسدار ہوتا ہے درختوں کے تنوں پر اکٹھے ہو کر ان کا ست چوستے ہیں۔ الیَرَقَان و الأرقان و الإرقان و الإرِقان والأرُقَان والأراق: ایک بیماری جو انسانوں اور کھیتی کو لگ جاتی ہے، اس سے رنگ پیلا یا سیاہ ہو جاتا ہے۔ عام لوگ اسے داءُ الصُفیرَہ کے نام سے جانتے ہیں۔

۳۔ الأریقی (ن) گلابی رنگ کے پھولوں والا ایک پودا۔

○ أرِقَ ـَ ارَقًا: نیند نہ آنا۔ ارَّقَ ہ: کو بے خواب کرنا، کو سونے نہ دینا۔ ارَق: بے خوابی۔

ارك: ۱۔ أرَكَ ـِ ارُوكًا الجملُ: اونٹ کا پیلو کے درخت کے پتے کھانا۔ اَرِكَ ـَ أرَكًا الجملُ: درخت پیلو کے پتے کھانے سے اونٹ کے پیٹ میں درد ہونا۔ الأوُرَاك (ن) واحد ارَاكَة جمع ارُك و ارائك: پیلو کا درخت۔

۲۔ أرَكَ ـَ ارَكًا و اَرِكَ ـُ ارُوكًا الجرحُ: زخم کا اچھا ہو جانا۔

۳۔ أرُوكاریا (ن): جنوبی امریکا کا صنوبر کی قسم کا اونچا درخت، اس کے پتے خاردار ہوتے ہیں اور ٹھنٹھ پر ہی اگ جاتا ہے۔

۴۔ الأریکة جمع أرِیك و أرائِك: آراستہ و مزین تخت۔

○ ارِیکَة جمع ارَائِك: کوچ، صوفہ، تخت

○ ارْکِیلَة جمع ارَاکِیل: حقہ۔

اِرْلَنْدِی: ملک آئرلینڈ کا (باشندہ) (Irish)

ارم: ۱۔ أرَمَ ـِ ارْمًا الارضَ: زمین میں نہ جڑ چھوڑنا۔ نہ شاخ صفت: أرماء و مارومة۔ ـــ الشیَٔ: کو جڑ سے ختم کر دینا۔ ـــ ماعلی المَائِدة: دسترخوان پر موجود سب کچھ چٹ کر جانا۔ الأرَّم: داڑھیں (کہا جاتا ہے: یحرق علیه الأرَّم وہ مارے غصے کے اس پر دانت پیستا ہے) انگلیوں کے کنارے۔ الأرُومَة والأرُومة والأرُوم جمع اروم: ہر چیز کی اصل، حسب، درخت کی جڑ۔ هو شریف الارومة: وہ شریف الحسب ہے۔

۲۔ الأرَّم: پتھر، الإرَم والأرِم جمع آرام و ارُوم: میدان میں میلوں کے شمار کے لئے پتھر، کہا جاتا ہے: مابها اِرَم او ارِم: اس میں کوئی نہیں۔ الأرُمَة جمع ارُم: نشان راہ۔

○ ارَمَ ـِ ارما: دانت سے کاٹنا ارُّم: داڑھیں۔ حَرَّقَ الأرَّمَ: (غصہ میں) دانت پیسنا۔ ارُومَة وارُومة: جڑ، اصل، درخت کا ٹھنٹھ۔ مِنْرَم: (دانت کی) جڑ۔

○ آرَام: ارآم (رئم کی جمع) سفید بارہ سنگھے۔

○ الأرْمَن: ارمینیا کے لوگ۔ ارْمَنی: آرمنی (صفت واسم)۔ ارْمِینیا: آرمینیا

○ الارناؤُط: البانی (جمع) أرْنَاؤُطی: البانیا کا باشندہ۔

ارن: أرِنَ ـَ ارَنًا و ارِینًا و اِرَانًا البعیرُ: اونٹ کا نشاط میں آنا صفت: ارِن و ارُون۔

ارنب: الأرْنَب (ح) خرگوش جمع ارَانِب۔

○ ارْنَب مونث جمع ارَانِب: خرگوش، ارنب هندی: امریکی چوہا۔ ارنبہ: مادہ خرگوش، ہرنی ارْنَبَةُ الأنف: ناک کا نوکدار سرا۔ (جانور کی) ناک یا تھوتھنی۔ ارْنِیك جمع ارانیك: نمونہ، شکل، خالی جگہ۔

ارو: الأرْوِیَّة والإرْوِیَّة جمع اراوِیّ و اراوٍ و أرْوَی

marfat.com

○ اروبا: یورپ، ارُوبی: (یورپین (صفت و اسم)۔

اری: ۱۔ أرَی ـِ ارْیًا النحل: مکھی کا شہد بنانا۔ الأریُ: شہد۔

۲۔ أرِی صدرہُ علیَّ: وہ مجھ پر غضبناک ہوا أرَّی النارَ: آگ سلگانا یا بھڑکانا۔ ـــ الدابة: جانور کے لئے تھان بنانا۔ تأرَّی بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ـــ عنه: سے پیچھے رہنا۔ الأرِیَّة: جانوروں کا تھان۔

○ آری: آریَن: (انسانوں کی ایک نسل) آرِیَة: آرین ہونا۔

○ ارِیحَا: فلسطین کا ایک شہر (Jevicho)

ازّ: ۱۔ ازَّت ـِ ازًّا و ازَازًا و ازِیزًا القِدرُ: دیگچی کا جوش مارنا، سنسنانا۔ ـــ القِدرَ و بِها: دیگچی کو جوش میں لانے کیلئے اس کے نیچے آگ جلانا۔ تأزَّزَ المجلسُ: اہل مجلس میں اضطراب و ہلچل مچنا۔ اسم الأزَّة الأزِیز: بادل کی گرج و کڑک۔ ٹھنڈ۔

۲۔ ازَّ ـُ ہ علی کذا: کو پر بھڑکانا، اکسانا، ابھارنا۔ ـــ الشیَٔ: کو جمع کرنا۔

○ أزَّ ـُ ازِیزا: کھولنا، ابلنا، ابلنے کے قریب ہونا۔ بھنبھنا، سائیں سائیں یا فوں فوں کرنا، پھنکارنا، سی سی کی آواز نکالنا، سوں سوں کرنا۔ آزیز: بھنبھنانا، بھنبھناہٹ، سائیں سائیں یا فوں فوں کرنا، (گولی کی) سیٹی۔

ازب: ازَبَ ـِ ازَبًا الماءُ: پانی کا بہنا، رواں ہونا۔ المِئزَاب جمع مآزیب والمِیزاب جمع مَیازِیب: پرنالہ، گندی نالی، بدرو، پانی بہنے کی جگہ۔

۲۔ الإزْب: چھوٹا، کمینہ۔

○ اِزْب: چھوٹا اور موٹا، فربہ، موٹا تازہ، گھٹیلا، چھوٹے قد کا آدمی۔

○ الأزْبَك: ترکستانی (جمع)

ازج: أزَّجَ البیتَ: مکان کو لمبا بنانا الأزَج جمع ازَاج و آزُج: لمبا مکان۔

ازح: ۱۔ أزَحَ ـِ ازُوحًا و تأزَّحَ: زیر لگانا، پیچھے رہ جانا صفت: ازُوح

۲۔ ازحت ـِ قدمُهُ: کا قدم پھسل جانا۔

ازد: ۱۔ الأزاد (ن): ایک قسم کی کھجور۔

۲۔ أزْدَرَخْتَ والأزادِرَخْت (ن) بکائن کا درخت۔

ازر: ۱۔ ازَرَ ـِ أزْرًا بالشیَٔ: کو گھیرنا۔ ـــ النباتُ: پودا گھ جانا۔ أزَّرَ: کو ڈھانپنا۔ تأزَّرَ و اتَّزَرَ و اِئْتَزَرَ: ازار پہننا، تہبند باندھنا۔ الإزار جمع آزِرَة و أزُر: پردہ، چادر، تہبند، الأزْر: پیٹھ، کہا جاتا ہے: شدَّ به ازْرَہُ: اس نے اس کو قوت پہنچائی الإزْر بمعنی اِزار۔ الإزْرَة: بمعنی اِزار (عام لوگ اسے الوزرة کہتے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہیں) تہبند باندھنے کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے: لکل قوم إزْرَةٌ یاتزرونها: ہر قوم کا جدا جدا طور و طریقہ اور رسم ہے۔ المِئزَر والمِئزَرَة جمع مَآزِر: بمعنی ازار کہا جاتا ہے، شد للامر مِئزَرَهُ: وہ کام کے لئے مستعدو تیار ہوا۔

۲۔ أَزَرَ ـِ و أَزَّرَ فُلاناً: کو مضبوط کرنا قوت پہنچانا۔ آزَرَهُ مُؤَازَرَةً: کو مدد دینا۔ الأَزْر: قوت۔ الإزار جمع آزِرَة و أُزُر: پشتہ دیوار۔

۳۔ الإزر: اصل، جڑ۔

○ أَزَرَ ـِ أَزْرًا ہ: کو گھیرنا۔ أَزَّرَهُ: کو ازار پہنانا۔ ہ/ہ: کو ڈھکنا، لپیٹنا، کو مضبوط کرنا، کی حمایت کرنا۔ آزَرَہ: کی مدد کرنا، تائید کرنا، پشت پناہی کرنا، کو قوت پہنچانا۔ تَأَزَّرَ و اِئْتَزَرَ: ازار پہننا، اپنے آپ کو ازار سے لپیٹنا۔ تَآزَرَ: ایک دوسرے کی مدد کرنا، متحد ہونا، ازسرنو جدوجہد کے لئے جمع ہونا، مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لئے مل کر کام کرنا۔ أَزْر قوت، شَدَّ ازره یا شدَّ من ازره: کی مدد کرنا، تائید کرنا۔ حوصلہ افزائی کرنا۔ کی پشت پناہی کرنا، شدّ ازرہُ: مستعد ہونا، سرگرم ہونا، طاقت ور ہونا، چاق و چوبند ہونا، تندرست و توانا ہونا، باہمت ہونا، جرأت مند ہونا إزار (مذکر و مونث) جمع أُزُر: لنگوٹی، لنگوٹ، شال، چادر، چغہ، جبہ، لبادہ، پوشش، پردہ، غلاف، سرپوش، مِئزَر جمع مآزِر: پیش بند، چغہ، جبہ، لبادہ، غلاف، سرپوش، پوشش، مُؤازَرَة: تائید، مدد، پشت پناہی تآزُر: باہمی امداد، ایک دوسرے کی مدد۔

ازف: ا۔ أَزِفَ ـَ أَزَفًا و أُزُوفًا: قریب ہونا، ہم کہتے ہیں: ازفت الآزفة اور ازفت الساعةُ: یوم قیامت قریب آ گیا، وہ گھڑی قریب آ گئی۔ تَآزَفَ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ ہم کہتے ہیں: تَآزَف القومُ: لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ الآزفة: قیامت کا دن۔

۲۔ أَزِفَ ـَ أَزَفًا و أُزُوفًا الرجُلُ: جلدی کرنا۔ آزَفَ إيزافَاهُ: کو جلد لے جانا۔ الأَزَفی: تیز رفتاری، وچستی۔ یمشی الأزفی: وہ تیز تیز چلتا ہے۔

۳۔ تأَزَّفَ المكانُ: جگہ کا تنگ ہونا۔ ـ الرجُلُ: پست قد ہونا، بدخلق ہونا، تنگ دل ہونا، الأَزَف: تنگی، بدحالی۔

۴۔ أَزِفَ ـَ الجرحُ: زخم کا مندمل ہونا بھر جانا۔

○ أَزِفَ ـَ أَزَفًا و أُزُوفًا: وقت کا آنا، قریب آنا، قریب ہونا۔

ازق: أَزَقَ ـُ أَزْقًا و أَزِقَ ـَ أَزَقًا: تنگ ہونا۔ تَأَزَّقَ: تنگ ہونا۔ المازق جمع مَآزِق: تنگ جگہ، میدان جنگ، تشویشناک صورت حال۔

○ مَأْزِق جمع مَآزِق: تنگ راستہ، رکاوٹ، خطرناک صورت، ناگوار صورت حال۔ مشکل، پریشانی، دوہری مشکل، نازک یا تشویشناک صورتحال، مازِقٌ حَرِج: خطرناک صورت، ناگوار صورت حال، دہری مشکل، پریشانی، بڑی مشکل، نازک یا تشویشناک صورت حال۔

ازل: ا۔ ازَلَ ـِ أَزْلًا: تنگی و سختی میں پڑنا صفت: أَزِل ـ ہُ: کو قید کرنا۔ تَأَزَّلَ: تنگی و سختی میں پڑنا صفت: ازِل الأَزْل: مصیبت۔

۲۔ الأَزَل: ازل، زمانہ جس کی ابتداء کی کوئی انتہاء نہ ہو۔ قدم۔ الأَزَلی: قدیم، دائمی وجود والا جس کی ابتداء نہ ہو۔

○ ازَل جمع آزال: ابد، ابدیت، ازلی، ابدی ازَلِيّة: ابدیت۔

ازم: ا۔ أَزَمَ ـِ أَزْمًا و أُزُومًا ہُ: کو دانت سے کاٹنا۔ الآزِم والآزِمَة و الأَزُوم جمع أُزَّم و أَوْزَام و أُزُم: کچلی، نوکدار دانت۔

۲۔ أَزَمَ ـَ العامُ: سال کا سخت قحط والا ہونا۔ ـ الدهرُ عليه: پر زمانہ کا سخت ہونا۔ تأَزَّمَ القومُ: لوگوں کا تنگی اور قحط سالی میں مبتلا ہونا، زمانہ کی سختی اور تنگی سے تکلیف اٹھانا۔ الأَزْم: مضر کاموں سے بچنا۔ کہتے ہیں۔ اصلُ كُلِّ دَوَاءٍ الازْمُ: ہر دوائی کی جڑ پرہیز ہے۔ الأَزْمَة والأَزمة جمع إِزَم و أَزَم و أزَمَات و أَوَازِم: سختی، تنگی، بحران: (ہم کہتے ہیں: ازْمَةٌ إقتصادية: اقتصادی بحران۔ ازْمَة سياسية: سیاسی بحران)۔ قحط۔ المازِم جمع مآزِم: تنگ مقام، میدان جنگ۔

۳۔ أَزِمَ ـِ الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ ـ بصاحِبِهِ: ساتھی کیساتھ ساتھ رہنا، چمٹا رہنا۔ ـ عليه: کی حفاظت کرنا۔ ـ عن الشيء: سے ہٹنا ـ الأزِم جمع أُزَّام: پرہیز کرنے والا۔

○ تَـأَزَّم: (صورت حال، تعلقات کا): سنگین ہونا یا ہو جانا، فیصلہ کن مقام تک پہنچنا۔ ایسے مقام تک پہنچنا جہاں کارروائی کرنا ناگزیر ہو جائے۔

○ أَزْمَة: ہنگامی صورت حال، ناگہانی ضرورت، بحران نازک دور، نازک لمحہ، تشویشناک مرحلہ، ازمة وزارِية: وزارتی بحران۔ وزارتی کشمکش، وزارت کو خطرہ۔ تَأَزُّمُ الحالة: تشویشناک صورتحال، صورت حال میں خرابی۔ [illegible] بحران کا شکار [illegible]

○ [illegible] (زمانہ سابق میں) [illegible]

سمندری بندرگاہ۔

○ إِزْمِيل جمع أَزَامِيل: چھینی، نہانی، بسولی۔

ازن الأُزُون (ك): آکسیجن کے تین ذرات پر مشتمل ایک گیس۔ ہوا اور پینے کے پانی میں جراثیم کشی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ رنگ نیلی مائل ہے۔

○ ازوت: ازوت (نائٹروجن کا قدیم نام)۔ نائٹروجن ازوتی: نائٹروجنی۔

ازی: آزَى مُؤَازاةً الرجُلَ: ایک کا دوسرے کے مقابل اور قریب ہونا، ایک دوسرے کے مقابل اور قریب ہونا۔ تَآزَى تَآزِيًا القومُ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تَـأَزَّى عنه: سے مڑنا، رکنا۔ إِزَاء: سامنے، مقابل کہا جاتا ہے: جلس إزاءَہ و بازائِه: وہ اس کے سامنے یا مقابل بیٹھا۔ هم إزاءُهم: وہ لوگ ان کے مماثل ہیں۔ الامرِ: کام کا منتظم۔

○ ازَى ہ: کے مقابل ہونا۔ ہ/ہ: کے سامنے ہونا۔ إزاء: مقابل، منہ در منہ، سامنے، (کسی صورت حال کے) مقابلے میں، بازاءِ: کے مقابل، سامنے، على إزاء: کے مقابلہ میں۔

○ آس: آس، مہندی کی طرح ایک پودا

○ آس جمع آسات: (تاش کا) اکا۔

اسّ: أَسَّ ـُ أَسًّا الدارَ: گھر کی بنیاد رکھنا أَسَّسَ البيتَ: گھر کی بنیاد رکھنا۔ تَـأَسَّسَ: بنیاد پڑنا۔ الأَسّ و الإِسّ و الأُسّ جمع إساس: (عمارت کی) بنیاد، ہر چیز کی ابتداء، الأَسَاس و الأَسَس جمع أُسُس: (عمارت کی) بنیاد۔ الحجر الأساسي: بنیادی پتھر۔ پہلا پتھر جو عمارت کی بنیاد میں رکھا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ابتداء۔ ـ او القاعده: (ک) جسم جس سے دوسری ہر چیز بنائی جاتی ہے۔ (کیمیاء) تاسيسي: بنیادی۔ المجلس التاسيسي: ملک کے بنیادی قوانین وضع کرنے والی مجلس۔ مُؤَسَّسَة: ادارہ، محکمہ، فرم، تنظیم (خواہ علمی ہو یا خیراتی یا اقتصادی) جیسے مؤسسة علميه: علمی ادارہ مؤسسة صناعية: صنعتی ادارہ۔

۲۔ أَسَّ ـُ بين الناس: لوگوں میں فساد برپا کرنا الأَسَّاس: چغل خور۔

○ اَسَّسَ ہ: کی بنیاد رکھنا، کو قائم کرنا، نصب کرنا، کی بنا ڈالنا۔ تَـأَسَّس: بنیاد پڑنا، بنیاد رکھا جانا، قائم کیا جانا، نصب کیا جانا۔ اُسّ: بنیاد، تاسیس۔ طاقت کا نشان (ریاضی)۔ اَسَاس جمع اُسُس: بنیاد (نیز عمارت کی بنیاد) بنیادی کام، زمین، بنیادی سُر، على اساسِ: کی بنیاد پر، کے باعث، کی سند سے، بسند، کی وجہ سے،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

maarfat.com

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کے سبب سے، کے مطابق، بقدر، حسب، لااساس له من الصحة: مکمل طور پر بے بنیاد (خبر، افواہ)
اساسي: بنیادی، ابتدائی، لازمی، جوہری، بڑا، اہم، اول، اعلیٰ، اصلی، حجر اساسي: بنیادی پتھر، نیو کی اینٹ۔ کونے کا پتھر۔ اساسیات: بنیادی اصول، اصول، تاسیسات: آسانیاں، سہولتیں، ضروری خدمات (جیسے پانی کی بہم رسانی) خیراتی ادارے۔
مجلس تاسیسي: آئین سازیا دستور ساز اسمبلی
مؤسس: بانی۔ مؤسسة جمع مؤسسات: ادارہ، محکمہ، فرم، خیراتی ادارہ، تنظیم۔

اسب: ۱۔ إسبانخ (ن): پالک (ایک سبزی کا نام)۔
۲۔ اسبداج و إسفيداج (ك): کاشغری سفیدہ۔
۳۔ الاسبرين (ك): اسپرین۔
○ الأسبان: سپین کے لوگ، إسباني جمع اسبانيون: سپین کا باشندہ۔ اسبانيا: اسپین (ایک ملک کا نام)
○ إسبرتو: الکحل۔

است: ۱۔ الاست: جڑ، بنیاد، سرین۔
۲۔ الأستاذ جمع أساتذة و أساتيذ: معلم، مدبر، عالم (ت): محکمہ جات حساب کا افسر اعلیٰ۔
۳۔ الإستار جمع أساتير: عدد میں چار، وزن میں ساڑھے چار مثقال۔ (فارسی لفظ)
۴۔ الإستبرق: موٹا ریشمی کپڑا۔ ریشم اور سونے کے تاروں کے بنے ہوئے کپڑے۔ (فارسی لفظ)۔
۵۔ الاستراتيجية (اع): فن لشکر کشی۔
۶۔ الاستيخارة: مشرقی شاہی کاہنوں کا لباس۔
۷۔ الاستيديو او استوديو (ف ج): سٹوڈیو (Studio) (نگار خانہ، جہاں فلموں کی تصویر کشی اور ہدایت کاری کا کام سرانجام پاتا ہے)۔
۸۔ الاستيلين (ك): بے رنگ بے بو کی ایک زہریلی اور خطرناک گیس۔ جو دھاتوں کو پگھلانے، جوڑنے اور روشنی کرنے کے کام آتی ہے۔
○ إستاتيكي: ساکن۔
○ إستاد: سٹیڈیم (Stadium) (کھیلوں کا میدان)۔
○ أستاذ جمع أساتذه: ماسٹر، ٹیچر، پروفیسر، (دانشوروں جیسے: وکلاء، صحافی، سرکاری اہلکار، ادباء اور شعراء کا خطاب) لیجر (بہی کھاتہ) الاستاذ الاعظم: (فری میسن جماعت کی جلسہ گاہ) گرینڈ ماسٹر، الاستاذ الاكبر: الازہر یونیورسٹی کا ریکٹر (Rector) استاذ كرسي اور استاذ بكرسي: کامل پروفیسر استاذ بلا كرسي: ایسوسی ایٹ پروفیسر۔ استاذ غير متفرغ: پارٹ ٹائم (جزوقتی) پروفیسر۔ استاذ مساعد: اسسٹنٹ پروفیسر۔ استاذ زائر: مہمان پروفیسر۔ هم اساتذه في الجدل: وہ مناظرہ یا جھگڑے کے ماہر ہیں۔ أستاذية: استادی، پروفیسری، پروفیسروں کی جماعت۔
استانبول: استنبول، کنسٹنٹینوپل (Constantinople)
الآستانه و الأستانة: استنبول۔
إستبرق: کمخواب، زربفت، زیبا۔
إستراتيجي: لشکر کشی، فوجی مصلحت کا۔
أسترالي: آسٹریلین۔ آسٹریلیا کا۔
أستراليا: آسٹریلیا (ایک ملک کا نام)
إسترليني: سٹرلنگ جنيه استرليني: پاؤنڈ اسٹرلنگ۔
منطقة الاسترليني: سٹرلنگ کا علاقہ۔
○ استوبه: موٹا سن، سن کی رسی، سن کا موٹا ریشہ، پرانے رسوں کا ریشہ جو جہاز کی درزوں میں بھرا جاتا ہے۔ سوت کا گودڑ۔
○ إستوديو جمع استوديوهات: سٹوڈیو (نگار خانہ) کمرہ یا عمارت جس میں فنکار کام کرتا ہے (atelier)۔
○ استوكهولم: سٹاک ہوم Stockholme
○ إستونيا: استونیا Estonia
○ إستياتيت: ایک قسم کی ابرق۔ ایک قسم کا نرم پتھر جو صابن کی طرح لگتا ہے اور زیورات بنانے کے کام آتا ہے۔

اسد: أسد ـــ أسدا: شیر کو دیکھ کر اوسان باختہ ہو جانا، دہشت زدہ ہو جانا، اخلاق میں شیر کی طرح ہونا۔ ـــ عليه: کے ساتھ جرأت کرنا تأسد و إستأسد عليه: کیساتھ جرأت کرنا، شیر کی طرح ہونا۔ الأسد جمع أسد و أسود و أسد و أسد و آساد: شیر (نرو مادہ)۔ (چنانچہ کہا جاتا ہے: هو الأسد وهي الأسد: وہ شیر ہے، وہ شیرنی ہے۔ مادہ کو لبوءة اور بچے کو الشبل کہتے ہیں)۔ بہادر۔ داء الاسد: جذام
المأسدة جمع مآسد: وہ جگہ جہاں شیر بکثرت ہوں یا پائے جاتے ہوں۔
۲۔ آسد ـــ أسدا و آسد إيسادا و أسد تأسيدا: الكلب بالصيد: کتے کو شکار کے لئے اکسانا، بھڑکانا، آسد بين القوم لوگوں میں فساد ڈالنا۔
۳۔ إستأسد النبت: نباتات کا لمبا ہونا اور ہر طرف پھیلنا۔
○ إستأسد على: کے خلاف شیر کی جرأت کا مظاہرہ کرنا۔ کے مقابلہ میں شیر بننا۔

اسر: ۱۔ أسر ـ أسرا و إسارة ه: کو تسمہ سے باندھنا۔ کو قبضہ میں کر کے قید کرنا۔ إستأسر: اپنے آپ کو بطور قیدی کے حوالے کرنا۔ ـــ ه: کو قید کرنا۔ کو قیدی بنانا۔
الأسر (مص): کہا جاتا ہے: هذا لك بأسره: یہ سب کا سب تمہارے لئے ہے۔ الاسار: تسمہ، الأسر: پیشاب کا رکنا۔ الأسير جمع أسرى و أسراء و أسارى و أسارى: قیدی، أسرى الحرب: جنگی قیدی۔
۲۔ تأسر عليه: پر دیر کرنا۔ إسار: پایاں الأسرة جمع أسر: خاندان۔ جسے عائلة بھی کہا جاتا ہے۔ مضبوط زرہ۔
۳۔ ماسوره جمع مواسير: (پانی کی) نالی، نلکی (تمباکو نوشی کی) نالی، نلکی۔
۴۔ الأسرب والأسرب والأسرب: سیسہ (فارسی لفظ)
○ أسر ـ أسرا ه: کو باندھنا، بیڑیاں ڈالنا، پابہ زنجیر کرنا۔ زنجیروں میں جکڑنا، گرفتار کرنا، قید کرنا، قیدی بنانا، کو لبھانا، موہ لینا، فریفتہ کرنا، گرویدہ کرنا، کو مسحور کر دینا، مبہوت کر دینا، کی توجہ حاصل کرنا، کے لئے جاذب توجہ ہونا۔ ـــ إستأسر: سپر انداز ہونا، ہتھیار ڈال دینا۔ اطاعت قبول کرنا، اپنے آپ کو بطور قیدی پیش کرنا۔ أسر: (چمڑے کا) تسمہ، پٹی، فیتہ، تسخیر، قبضہ، اسیری، قید، گرفتاری۔ شدة الأسر: زور، طاقت، توانائی، أسرة جمع أسر: خاندان، کنبہ، شاہی سلسلہ، خاندان سلاطین، چھوٹا قبیلہ، برادری، عزیز رشتہ دار، اعزہ و اقارب، بھائی بند بأسره: مکمل طور پر۔ سب کے سب جاؤوا بأسرهم: وہ سب آئے، وہ سب کے سب آئے۔ إسار: (چمڑے کا) تسمہ، پٹی، فیتہ، اسیری، قید، گرفتاری، دل فریبی، گرویدگی، غلام بنانا۔ وقع في إساره: کا ہدف بننا، کی گرفت میں آجانا۔ أسيره جمع أسيرات: عورت قیدی، لونڈی آسر: دلکش، دلفریب، گرفتار کرنے والا، انعام جیتنے والا۔ مأسورب: کے ذریعہ فریفتہ، جادو کیا ہوا، گرویدہ، مسحور، غلام بنایا ہوا، اسیر۔
○ اسرائيل: اسرائیل، بنو اسرائیل، اسرائيلي (جمع) دولة اسرائيل: اسرائیلی ریاست۔ إسرائيلي: اسرائیلی (صفت و اسم)، اسرائيليات یہودی روایات۔
○ إسرافيل: وہ فرشتہ جو قیامت کے دن صور پھونکنے پر مامور ہے۔
○ اسطامبول: استنبول (ترکی شہر)

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ اسطبل: اصطبل، کھلیان، غلہ گودام،

○ اُسْطُبَۃ: دیکھو ا۔ (استوبۃ)

اسط: ا۔ الإسْطاطِیقی: جمالیات (Aesthetics)

۲۔ الإسْطَبل: جمع إسطبلات: اصطبل۔

۳۔ اُسْطَرالصین (ن): ایک پھولدار پودا۔ اللؤلؤیۃ کے کام سے بھی مصروف ہے۔

۴۔ الاسطر اغالُس (ن): ایک خاردار درخت، کئی قسموں پر مشتمل ہے۔ اس سے گوند نکالی جاتی ہے۔ کئی طبی استعمالات کا حامل ہے۔

۵۔ الأسْطُرلاب: (فلك): ایک آلہ جس سے ہیئت دان ستاروں کی بلندی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ رات اور دن کی گھڑیوں اور مختلف فلکی مسائل کے حل کا کام بھی دیتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں۔ (۲) سطح، خطی وغیرہ (Astrolabe)

۶۔ الأسطقِس والإسْطَقِس: اصل، جزِ مادہ، قدماء کے نزدیک یہ عناصر اربعہ کا نام ہے۔ یعنی پانی، زمین، ہوا اور آگ (عنصر Element)۔

۷۔ الأسْطَوانۃ جمع أساطین واساطِنہ: ستون، کھمبا (کہا جاتا ہے: هم اساطين الزمان: وہ لوگ زمانہ کے ممتاز افراد اور حکماء ہیں) جانور کی ٹانگ، فونو گراف (یا گراموفون) یعنی صوت نگار آلہ۔ ریکارڈ (گراموفون کا توا)۔

۸۔ اسطوانہ: سلنڈر Cylinder

۹۔ الأسْطورۃ جمع اساطیر: قصہ، حکایت، (جو خیالی اختراعات اور عوامی تقالید کی آمیزش کا حامل ہو)۔

۱۰۔ الأُسطول جمع اساطِیل: بحری جہازوں، جنگی تجارتی طیاروں یا شکاری کشتیوں کا بیڑہ۔ (Fleet, Squadron)۔

○ اُسْطُوانَۃ جمع اُسطوانات: ستون، سلنڈر، فونو گراف، ریکارڈ جمع اساطین: بلند رتبہ اور ممتاز شخصیات، نامور اشخاص (ستارے)، مشاہیر، حکام، ارباب اختیار، ماہرین، عظیم فنکار، اساطین الفن: بمعنی عظیم فنکار۔ اسطوانی: سلنڈر کا، سلنڈر کے متعلق۔

○ اُسْطورۃ جمع اَساطِیر: روایت، داستان، من گھڑت قصہ، حکایت، کہانی، دیوی دیوتاؤں کا قصہ، بے اصل داستان، رزمیہ داستان، اُسْطُورِی: افسانوی، من گھڑت، بے سروپا، فرضی، خیالی، پرافسانہ، روایتی۔

○ اُسْطَی: (استاذ کے معنی میں) جمع اُسْطَوات: ماہر، فنکار، فورمین (جیوری کا) سربراہ، اوورسیر (Overseer) نگران، (ٹیکسی ڈرائیور، گاڑی بان، کوچوان، بس ڈرائیور وغیرہ کو بھی اُسْطَی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں انہیں استاد جی کہا جاتا ہے۔)

اسف: ا۔ اَسِفَ ـَ اَسَفًا علیہ: پر غمگین ہونا افسوس کرنا صفت آسِف، آسَفَ اِیسَافًاہُ: کو غصہ دلانا، غمگین کرنا۔ تأَسَّفَ: افسوس کرنا کہتے ہیں: یا اسفی و یا أسفًا علی کذا: مجھے اس کے کھو جانے پر کس قدر حسرت واندوہ ہے۔ الاسَافَۃُ: افسوس الأسُوف: جلد غمگین ہونے والا نرم دل۔ الأسیف جمع اُسَفَاء مؤنث أسِیفۃ: غمگین، ملول۔ یہ لفظ ڈھارس بندھانے کیلئے خط کے آخر میں لکھا جاتا ہے۔

۲۔ الأَسَافۃ: زمین کی نرمی۔ الأسِیف: جمع الأسَفاء: مؤنث الأَسِیفَۃ: وہ شخص جو موٹا نہ ہوتا ہو۔ ارضٌ اسِفَۃ و اُسَافۃ: بنجر زمین، کاشت کے لئے ناموافق زمین۔

۳۔ الإسْفَنْج واحد إسْفَنْجَۃ (ح): اسپنج۔

۴۔ الإسْفَنْد والسِفَنْد (ن): سفید رائی۔

○ أسِفَ ـَ أسَفًا علی / ل: پر متاسف ہونا، پچھتانا۔ ـ علی: کا افسوس کرنا، کے بارے میں غمگین ہونا۔

اَسَف: سخت غم، باعث غم، وجہ، ملال، دکھ، رنج غم، الم، اندوہ، جھنجلاہٹ، افسوس، تاسف۔ واأسفاہ: اف، بڑے افسوس کی بات ہے، کتنی بری بات ہے! و یاللأسَفِ یا صرف لِلأسفِ: بدقسمتی سے افسوس ہے کہ۔ مَعَ الأَسَفِ و بِکُلِّ اَسَفٍ: بدقسمتی سے، افسوس ہے کہ۔ آسِف و أَسِیف متاسف: غمگین، رنجیدہ، افسردہ، ملول، مغموم، پریشان، تأسُّف: رنج، ملال، دلگیری، آزردگی، آسِف: غمگین، متاسف: رنجیدہ، تَرَکْتُہ غیرَ آسِفٍ: میں نے اسے رنج و ملال کے بغیر چھوڑا، میں اس سے رخصت ہو کر بہت خوش تھا۔ ماسوف علیہ: مرنے والا جس پر غم کیا گیا، آہ وزاری کی گئی، نوحہ کیا گیا، غم وافسوس کیا گیا۔ مؤسِف: قابل افسوس، پریشان کن، تکلیف دہ، مغموم کن، اندوہگین۔ مُتَأَسِف: غمگین، اندوگیں، رنجیدہ، افسردہ، ملول، متاسف۔ مُتَأَسِّف! معاف کرنا!

○ اِسْفَانَاخ و اِسْفَانَخ: پالک۔

○ اُسْفَلْت: اسفالٹ (asphalt)

○ اِسْفَنج و اِسْفُنج: اسفنج، سپنج (Sponge)۔ اِسْفَنْجِی: سپنج کا سا۔ اسفنجی: مسام دار۔

○ اِسْفِنْدَان: میپل۔ ایک قسم کا درخت جس سے کھانڈ

○ اِسْفِیدَاج: سفید سیسہ، سیسے سے بنا ہوا سفید مسالہ جسے بطور غازہ استعمال کیا جاتا ہے۔

○ إسْفِین: جمع اَسَافِین: پھانہ، پچر

○ اسقربوطی: مرض اِسْقَربُوطِی: فساد خون، خارش۔

اسق: ا۔ إسْقُمْرِی (ح): لمبی اور خوش ذائقہ گوشت والی سمندری مچھلی، ماکرل Mackerel۔

۲۔ الإسْقَنْقُور و والسَقَنْقُور (ح) ایک رینگنے والا جانور جو گرم ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ گرگٹ سے بڑا اور موٹا ہوتا ہے۔ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ خشکی کا مگرمچھ بھی کہلاتا ہے۔

○ اُسْقُف جمع اُسَاقِفَۃ و أَسَاقِف: بشپ، پادری (bishop) رئیس الاساقفہ: لاٹ پادری۔ اُسْقُفی: اسقف (پادری) کے ماتحت یا اختیار میں اُسْقُفِیَۃ: پادری کی سرکاری حیثیت۔ ایک پادری کے ماتحت علاقہ۔

○ اِسقیل: سمندری پیاز کی ایک مشرقی قسم۔

○ اِسْکَتْش: خاکہ، نقشہ، سکیچ sketch

○ اِسکُتْلَندا: سکاٹ لینڈ (ملک کا نام)

○ اِسْکُتْلَنْدِی: سکاٹ لینڈ کا، سکوچ

○ اسکل: الإسْکِلۃ جمع أسَاکِل: بحر روم کی ایک بندرگاہ کا نام۔

○ اِسْکَمْلَۃ: سٹول، فٹ سٹول۔

○ اِسْکَنْدَرُونۃ: (جنوبی ترکی کی بندرگاہ کا نام)

○ الاسْکَنْدَرِیَۃ: اسکندریہ (شمال مصر کا ایک شہر)

○ اِسْکَنْدِینافیا: سکینڈے نیویا (ملک کا نام)

اسل: اَسِلَ ـَ اَسَلًا و أَسُلَ ـُ أَسَالَۃً: نرم و ہموار ہونا، دراز ہونا، چکنا ہونا۔ صفت: اَسِیل مونث اَسِیلَۃ: قدہ۔

خَدٌّ اسیل: نرم دراز چکنا رخسار۔ اَسَّلَ الرمحَ: نیزہ کو تیز کرنا تأسَّلَہُ: اخلاق وعادات میں کے مشابہ ہونا کہا جاتا ہے۔ ھو علی آسَالٍ من ابیہ: وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔ (آسالٌ کا مفرد نہیں آتا)۔ الأَسَل: نیزہ، ہر تیز اور پتلا لوہا۔ مثلاً تلوار اور چھری وغیرہ (کہا جاتا ہے: جَمَعَ بَیْنَ الیراع والأَسَل: اس نے قلم اور نیزہ یعنی علمی آداب اور جنگی آداب کو باہم مربوط کیا) (ن) پتلی اور لمبی شاخوں والا ایک پودا۔ واحد اَسَلَۃٌ (ٹوکریوں اور کرسیوں کو بننے کے کام آتا ہے۔) الأسَلَۃ: زبان کی نوک، بازو کا اگلا حصہ، (کہا جاتا ہے۔ لا یزال ھذا الأمر علی أَسَلَۃِ لسانِہ: وہ ہمیشہ یہ کام کرتا رہتا ہے۔)

أَسَّلَ ہ کو تیز کرنا۔ کی نوک نکالنا کو، مخروطی بنانا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الأَسَـــل: (اسم جنس): نگر موتھا، سینٹھا، جس کے مونڈھے وغیرہ بنتے ہیں اَسَلَة جمع اَسَلات: کانٹا، کیل، میخ، دوشاخہ، دوسول نوک (نب (قلم کی)، زبان کی نوک للحروف الاسلية: س، ز، ص
أَسِـل: ہموار ہونا اَسِـل: ہموار گال اَسَـالة: بیضوی شکل مُؤَسَّل: نوکدار گاؤدم۔
اِسْلَامبولي: (استانبولی) استنبول کا (استنبول ترکی کا ایک شہر)۔
اِسْلَانْدَه: آئس لینڈ (ایک ملک کا نام)
اسم: الاسم: دیکھوس م و۔
۲الُسامة: شیر کا علم جنس۔
۳الأَسْمَنْت (ك): سیمنٹ (cement)
اَسْمَانْجُونِي آسمانی نیلا، نیلا آسمانی، نیلگوں، لاجوردی، گہرے نیلے رنگ کا۔
اَسْمَرَه ملک اریٹریا کے دارالحکومت کا نام۔
اَسْمَنْتِي: سیمنٹ کا۔
اسن: أَسَنَ ـِ أَسْنًا و أُسُونًا الماءُ: پانی کا متغیر ہونا صفت آسِن: (جس کا ذائقہ رنگ اور بو متغیر ہو)۔
أَسِنَ ـَ أَسَنًا الرجلُ: سڑے ہوئے پانی والے کنویں میں داخل ہونے سے بیہوش ہو جانا، سر چکرانا۔ صفت أَسِن، ـَ الماءُ: پانی کا متغیر ہونا تأَسَّنَ الماءُ: پانی کا متغیر ہونا تأَسَّنَ وُدُّه: کی دوستی کا بدل جانا -
أباه: باپ کے اخلاق اختیار کرنا الأُسُن جمع آسان: بقیہ چربی الآسَـــان: پھٹے اور بوسیدہ حصے، آثار قدیمہ آسانُ الشياب: کپڑے کے پھٹنے اور بوسیدہ حصے۔
اَسَنَ ـُ و اَسِنَ ـَ اَسَنًا: پانی کا کھاری اور نمکین ہو جانا آسِن: کھاری، نمکین۔
اسا: أَسَا ـُ أَسْوًا و اَسًا الجرحَ: زخم کی دوا کرنا۔ أَسَّى تَأسِيَةً الرجلَ: کا علاج کرنا الإِسَاء جمع آسِيَة: دوا الأُسُوّ: دوا الآسِي جمع أُسَاة و إِسَـــاء مونث آسية جمع آسِيَـــات و اَوَاسٍ: طبیب، معالج۔
۲أَسَا ـُ أَسْوًا و اَسًا الرجلَ: کو تسلی و دلاسا دینا صفت مفعول: اَسِيّ و مَأْسُوّ أَسَّى تَأسِيَةً الرجلَ: کو تسلی دینا، دلاسا دینا تأسَّى: صبر کرنا، تسلی کرنا تَآسَى القومُ: ایک دوسرے کو تسلی دینا۔
الأُسْوَة و الإِسْوَة جمع أُسًى و إِسًى: وہ چیز جس سے تسلی حاصل کی جائے الأُسْـــوَان: غمگین اِسْتَ التَأسَاء: تعزیت، تسلی۔
أَسَا ـُ اَسْوًا و أَسًا بينهم: لوگوں کے درمیان صلح کرانا بفلان: فلاں شخص کو کے لئے نمونہ بنانا۔
أَسَّى تَأسِيَةً الرجلَ: کی مدد کرنا آسَى مُؤَاساةً الرجلَ في مالِهِ: کے ساتھ مالی ہمدردی کرنا، کہا جاتا آسَيْتُهُ بنفسي: میں نے اس کو اپنے برابر سمجھا ائْتَسَى وائْتَسَى به: کی پیروی کرنا، اقتداء کرنا الأُسْوَة و الإِسْوَة جمع أُسًى و إِسًى: نمونہ۔ اقتداء
اَسَا ـُ اَسْوًا و اَسًا ه: زخم کا علاج کرنا بين: کے درمیان، مابین صلح کرانا أَسِيَ (اَسًى و اَسًا) غمگین ہونا، ملول ہونا، رنجیدہ ہونا، پریشان ہونا أَسَّى ه: کو تسلی دینا، دلاسا دینا، کی تیمارداری کرنا آساه: کو اپنی دنیوی سامان میں شریک کرنا، حصہ دار بنانا، کے ساتھ سخاوت کرنا، کی مدد کرنا، کو سہارا دینا، کو تسلی دینا دلاسہ دینا ه: کا علاج کرنا، دوا سے درست کرنا۔
تَأَسَّى: تسلی حاصل کرنا، تسکین پانا تَآسِي: دنیوی املاک میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، باہمی مدد دینا تَأَسِّي: رنج، غم ملال، دکھ، مصیبت، تأسف، أُسْوَة و إِسْوَة: مثال، نمونہ أُسْوَةً ب: کی مثال یا نمونہ پر عمل کرتے ہوئے، کے راستے پر، کی طرح، مَأْسَاة جمع مَآسٍ: ٹریجڈی، ڈرامہ مأسوية: تسلی، دلاسہ، دلجوئی، ڈھارس مُوَاساة: تسلی، دلاسہ، دلجوئی، ڈھارس، سخاوت، خیرات، داد و دہش، احسان۔
إِسْوَار و أُسْوَار: جمع أَسَاوِر و اَسَاوِرَة: بازو بند، کنگن، چوڑی، پہنچی،
أُسْوَان: جنوبی مصر کے ایک شہر کا نام۔
اَسُوج: سویڈن (ملک کا نام) اسوجي: سویڈن کا۔
اسی: أَسَّى ـ أَسْيًا له من الشيء: کے لئے کسی چیز میں سے کچھ باقی چھوڑنا الآسِيَة جمع أَوَاسٍ: ستون، کھمبا، کہا جاتا ہے مَلِك ثابتُ الأواسي: مضبوط سلطنت والا بادشاہ۔
۲أَسِيَ ـ أَسًى: غمگین ہونا صفت أَسٍ و أَسْيَان و أَسْيَانُون مونث آسِيَة و أَسْيَانة جمع أَسْيَانات و أَسْيَات و أسايا۔ المَأْسَاة: شدید حادثہ، حزنیہ، المیہ، ٹریجڈی، ڈرامہ۔
آسيا: ایشیا (براعظم) آسيا الصغرى: ایشیا کوچک آسيوي: ایشیائی (صفت و اسم)
اَسْيُوط: (وسطی مصر کے ایک شہر کا نام)
اش: الأَش: سوکھی روٹی
اشب: أَشَبَ ـُ أَشْبًا القومَ: بعض کو بعض کے ساتھ ملا دینا أَشَّبَ و ائْتَشَبَ القومُ: گھل مل جانا الأُشَابة جمع أَشَائِب: لوگوں کا مخلوط گروہ، وہ کمائی جس میں حرام ملا ہوا ہو نسب مُؤْتَشَب: غیر خالص نسب۔
أَشِبَ ـَ أَشَبًا و تَأَشَّبَ الشجرُ: درخت کا گنجان ہونا، گھنا ہونا صفت أَشِب: کہا جاتا غيضة أَشِبَة: گھنا جنگل الأَشَب: درختوں کی ایسی کثرت کہ ان میں گزر نہ جا سکے۔
۳أَشَبَهُ ـِ أَشْبًا: کو ملامت کرنا، پر عیب لگانا۔
تَأَشَّب: (ہجوم کا) مخلوط ہونا مختلف العناصر ہونا۔ مختلف قسم کے لوگوں پر مشتمل ہونا أُشَابة جمع أُشَائِب: مخلوط اور مخلوط قسم کے لوگوں پر مشتمل ہجوم / بھیڑ۔
اِشْبِيلِيَة: (جنوب مغربی ہسپانیہ کے ایک شہر کا نام (Leville
إشبين جمع أشابين: دیکھو ش ب ن۔
اشر: أَشَرَ ـِ أَشْرًا الخشبةَ: لکڑی کا تختہ چیرنا الأُشُر (والأُشُر و أُشَرَة) المنشار: آری کے دندانے۔
المِئْشار جمع مَآشِير و مَوَاشير: آری۔ آرہ۔
۲أَشَرَ ـِ و أَشَّرَ الاسنانَ: دانت تیز کرنا الأُشُر والأَشَـــر جمع أُشُـــور: دانتوں کی تیزی (پیدائشی یا مصنوعی)۔
۳الآشِر جمع أَوَاشِر (ح): ٹڈی کے پاؤں کا کانٹا، ٹڈی کی دم کے سرے کی گرہ التأشِير جمع تآشير (ح): ٹڈی وغیرہ کا وہ عضو جس سے وہ کاٹنے کا کام لیتی ہے۔
۴أَشَّرَ على ورقة: پر شرح لکھنا أَشَّرَ على جواز سفره او اجازته: پر ویزہ لگانا التأشير: تصدیق، ظاہری تصدیق۔ منظوری ویزہ۔
۵أَشِرَ ـَ أَشَرًا: مغرور ہونا، اکڑنا صفت أَشِر و أَشُر و أَشْـرَان جمع أَشِرُون و أَشُـرون و أَشَـاری و أُشاری ـ
أَشَرَ ـُ أَشْرًا ه: کو آری سے چیرنا ه: کو ریتی کرنا، کو ریتی سے تیز کرنا، رگڑنا أَشَّـــر ه: پر نشان لگانا، کو داخل کرنا، کو ظاہر کرنا، کو قلمبند کرنا، ضبط تحریر میں لانا۔ ویزہ علی: کو ویزہ مہیا کرنا أَشَر: زندہ دلی، جوش ولولہ، ہمت، بہتات کثرت، ریل پیل، افراط، جلد بازی، بیتابی، وحشت، خودروی، گستاخی، بدتمیزی أَشِـــر: زندہ دل، خوش طبع، شگفتہ خاطر، تیز چست، لبریز، مالا مال، وحشی، گستاخ، بدتمیز، خود پسند، مغرور، متکبر مِئْشار جمع مَآشِير: آرہ تأشِير: سرکاری تصدیق کا اجراء، سرکاری تصدیق، منظوری،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ویزہ۔ تَأشِیرۃ جمع تاشیرات: ویزہ۔ تاشیرۃ مُرُوْر او تاشیرۃ اجتیاز: گزرنے یا عبور کرنے کا ویزہ (transit visa)۔ مُؤشِّر: نشانی، علامت، بتانے والا آلہ، سوئی۔ مُؤَشَّر: نوکیلے کونوں والا، دندانہ دار۔ ـــ ب: سے، کے ذریعہ نشان لگایا ہوا۔ معین کیا ہوا، صراحت کیا ہوا۔

اشقل: الإشْقِیل (ن): ایک پودا جو دواء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو "بصل الفار" بھی کہتے ہیں۔

اشن ۱۔ الأُشْنان والإشنَان (ك) پوٹاش، ایک قسم کی بوٹی جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔

۲۔ الأشْنة (ن) ایک قسم کی نباتات جو درختوں اور پتھروں یا میٹھے پانیوں یا سمندروں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کلورفیل کا مادہ نہیں ہوتا۔ طُحْلب کے نام سے بھی معروف ہے یعنی کائی۔

○ اَشُور: اسیریا (ملک کا نام) أشُوری: اسیریا کا، اسیریا کا باشندہ (صفت واسم)

اصّ: أصَّ ـــ الشیئَ کو توڑنا، کو ہموار کرنا۔ أصَّص الشیءَ: کو مضبوط کرنا۔ تَأَصَّوا و اِئْتَصُّوا جمع ہونا۔ بھیر کرنا۔ الأصِیص جمع أُصُص: ٹوٹا ہوا برتن۔ گملہ، پیشاب کا برتن، الأصیصة: پاس پاس یا گردوپیش کے مکانات۔

أصد: أصَدَ و آصَدَ الباب: دروازہ بند کرنا، صفت مفعولی: مُوصَد اَصَّدَهُ: کو چھوٹی قمیض پہنانا۔ الأُصْدَة جمع أُصَد و إصاد: چھوٹی قمیص۔

اصر ۱۔ أَصَرَ ـِ اَصْرًا الشیءَ کو توڑنا۔

۲۔ اَصَرَ ـِ اَصْرًا فلانًا علیه: کو پر مہربان بنانا۔ الآصِرَة جمع اَوَاصِر: رشتہ، تعلق، مہربانی کہا جاتا ہے: ماتاصرنی علی فلان آصِرَة: مجھے فلاں شخص پر رشتہ داری مہربان نہیں بناتی۔

۳۔ أصَرَ ـِ الخیمة: خیمہ کے لئے میخ بنانا آصَرَهُ مُؤَاصَرَةً: کا پڑوسی ہونا۔ تَآصَرُوا: باہم پڑوسی ہونا۔ اِئْتَصَر النبتُ: پودوں کا لمبا، گنجان اور آس پاس ہونا۔ القومُ لوگوں کا تعداد میں زیادہ ہونا۔ الإصار جمع أُصُر و الأَيْصَر جمع ایاصر و الإصَارَة: خیموں کی رسیوں کا کھونٹا یا کیلا۔ الأَصْر و الاصر و الاصر جمع آصار: عہد و پیمان۔

۴۔ الأصر و الاصْر و الأُصُر جمع آصار: بوجھ، گناہ، کہا جاتا ہے: ربَّنا لاتحمل علینا إصرًا: اے ہمارے پروردگار ہم پر بھاری بوجھ یا گناہ نہ ڈال۔

○ اِصْر جمع آصار: عہد، معاہدہ۔ اقرار، عہدنامہ، عہد و پیمان، قول وقرار، میثاق، بوجھ، بار، گناہ، جمع آصار: ایکا، اتحاد، بندھن، رشتہ، تعلق۔ آصِرَة جمع اَوَاصِر: رشتہ، بندھن، تعلق او اصر الوَلَاء: دوستی کے رشتے فرض، احساس ذمہ داری، ذمہ داری، وعدہ۔

اصط: اِصْطَبْل: اصطبل۔

۲۔ أَصْطُرَك (ن): ایک قسم کا درخت جو لبن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خوش منظر ہے، اس کے پھول سفید اور مالٹے جیسے ہوتے ہیں۔ اور صحتمند فوائد رکھتا ہے۔

۳۔ الأُسْطُوَانَة جمع اساطین و اَسَاطِنَه دیکھو: اسطوانہ۔

اصف: الأَصَف (ن): ایک قسم کی خاردار جھاڑی۔

○ اِصْفَهان: مغربی وسطی ایران کے ایک شہر کا نام۔

اصل ۱۔ اَصُلَ ـُ اَصَالَةً: جڑ والا ہونا، جڑ پکڑنا، شریف الاصل ہونا صفت: اَصِیل: اَصَّلَهُ: کو جڑ والا بنانا، کی اصل بیان کرنا یا شرافت بیان کرنا۔ تَأَصَّلَ: جڑ والا ہونا، جڑ پکڑنا۔ اِسْتَأْصَلَ الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ـــ تِ الشجرةُ: درخت کا جڑ پکڑ لینا۔ الأَصْل جمع أُصُول: جڑ، پہاڑ کی جڑ۔ تنہ۔ اصل الشجرہ: درخت کا تنہ (کہا جاتا ہے: مافعلته اصلًا: میں نے قطعاً یہ کام نہیں کیا) والد، مصدر، منبع (کہا جاتا ہے: لا اَصل له و لافصل: اس کا نہ تو کوئی والد ہے نہ بیٹا یا نہ اس کا کوئی حسب ہے نہ زبان)۔

الأُصُول: وہ قوانین و قواعد جن پر کسی علم کی بنیاد ہو۔ اصول الدین: دین کے قوانین و قواعد۔ اصول العلوم: علوم کے قوانین و قواعد الاصیل شریف الاصل: بغیر وکیل خود لین دین کرنے والا۔ الأَصِیْلَة: جڑ والی۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا بِأَصیلتهم: وہ تمام کو لے آئے۔

۲۔ أَصُلَ ـُ أَصَالَةً رأیُهُ: کی رائے کا اچھا ہونا صفت: اصیل اَصَالَة و إصَالةُ الرائی: رائے کی عمدگی۔

۳۔ آصَلَ إیصالًا: شام کے وقت میں داخل ہونا، بوقت شام آنا۔ الأَصِیل جمع آصال و أصائِل و اُصُل و اُصْلان: عصر و مغرب یا شام کا درمیانی وقت۔

○ اَصُلَ ـُ اَصَالَة: مضبوط جڑوں والا ہونا یا ہو جانا، مضبوط بنیادوں پر استوار ہونا، قائم ہونا، شریف الاصل ہونا۔ أَصَّلَ ﻫ: کی بنیاد رکھنا، کی بنا ڈالنا۔ کو مضبوط بنیاد فراہم کرنا، کی بنیاد، یا اصل قائم کرنا، استوار کرنا تَأَصَّلَ: مضبوط جڑ والا ہونا یا ہو جانا، گہری جڑ والا ہونا گہرا، پکا یا پختہ ہونا، جڑ پکڑنا، مضبوطی سے استوار ہونا، قائم ہونا۔ ـــ من: سے اپنی اصل حاصل کرنا۔ اِسْتَأْصَلَ ﻫ: کو جڑ [illegible] سے اکھیڑنا، کا قلع قمع کرنا، کو نیست و نابود کرنا۔ کوئی عضو آپریشن کے ذریعے نکالنا۔ استاصل شافتَهُ: کو یکسر جڑ سے اکھیڑنا کا یکسر قلع قمع کرنا، کا استیصال کرنا۔

اصل جڑ، تنہ (درخت کا)، اصل، سرچشمہ، منبع، وجہ، سبب، پشت، پیڑھی، نسل و مذہب، سلسلہ نسب، شجرہ نسب، نسب، اصل نسل، بنیاد، اصل طبع زاد جمع اصول: اصول، بنیادی حقیقت، علت و معلول کا اصول یا سلسلہ، بنیادی اصول، اصول، بنیادی حصہ، مبادی، مبادیات، بنیادی قواعد۔ بدیہیات، اولیات، غیر منقولہ جائیداد، زرعی جائیداد، اثاثہ، املاک، دولت سرمایہ۔

اَصْلًا: دراصل، بنیادی طور پر، ابتداءً، نفی کی صورت میں) ہرگز نہیں کسی صورت میں بھی نہیں، کسی طرح نہیں، قطعاً نہیں، فی الاصل دراصل، شروع میں اصول الفقه: اسلامی فقہ کی چار بنیادیں (قرآن، سنہ، قیاس، اجماع) اصول و خصوم: اثاثے اور قرض، اصول مُضَاعَفَة دوہری کھاتہ نویسی۔ (double entry booke keeping) حسب الاصول: مناسب طور پر، ضوابط کے مطابق۔ اصلی: اولین، قدیمی، قدیم ترین، طبع زاد، پہلا، اول، ابتدائی، اصلی، بنیادی، خالص، کھرا، بے میل، حقیقی، مصدقہ، مستند، قابل اعتماد، معتبر، اعلیٰ، عمدہ، بڑا، خاص، صدر، بڑا اہم، سربرآوردہ، عظیم، مقدم، مرکزی۔ الثمن الاصلی: قیمت خرید۔

الجهات الاصلية: (کمپاس کے) بنیادی نقاط و علامات عدد اصلی: اصلی عدد عضو اصلی: باقاعدہ رکن اصولی: قواعد کے مطابق، عام یا مروجہ اصولوں کے مطابق، روایتی، معمولی، حسب معمول، حسب رواج، عام، ماہر قانون (آجکل بمعنی بنیاد پرست (fundamentslist) بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جمع الاصولیون) اصیل جمع اصلاء: شریف الاصل، شریف النسب، اولین، قدیمی، قدیم ترین، پہلا، اول، ابتدائی، مصدقہ، مستند، حقیقی، خالص، مناسب، واقعی، اصلی، مضبوطی، ٹھوس، معقول، درست، قوی، مضبوط، دانشمندانہ، ہوشمندانہ، مضبوط کردار کا حامل، پکا، ثابت قدم، استوار، گہری جڑوں والا، وطن کا، دیسی، ملکی، پیدائشی، الاصل الاصیل اصلی وجہ۔ اصیل الرأی معقول اور صحیح سمجھ و بصیرت رکھنے والا۔ أصِیل جمع آصال و اصائل: غروب آفتاب سے قبل کا وقت، سہ پہر اَصَالَة: پختگی، ثابت قدمی، استقلال، کردار کی قوت، نسبی شرافت، نسلی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پاکیزگی۔ اَصَـالَۃً: فوراً، بلاواسطہ، ذاتی طور پر۔
اِصـالۃُ الرای: سمجھ وبصیرت کی پختگی، شستگی، معاملہ فہمی، تدبر۔ بـالا صالۃ عن نفسہ: ازخود، خود بہ خود، آپ ہی آپ، ذاتی طور پر۔ علیحدگی میں، الگ (اس کے مقابل بالنیابۃ عن غیرہ ہے)۔
اَصالَۃً ونِیابَۃً: بلاواسطہ اور بالواسطہ۔ تاصیلۃ: شجرہ نسب، سلسلۂ نسب۔ متـاصـل: جس کی جڑیں گہری ہوں، مزمن (بیماری)۔

اضّ: أَضّ ـُ أَضّاہ إلیہ: کو پر مجبور کرنا، مضطر کرنا۔۔۔ فـلانًا: کو تھکا دینا۔ اِئْتَـضَّ الیـہ: پر مجبور ہونا، مضطر ہونا۔ الإِضّ: اصل، جز، کہا جاتا ہے۔ فـلانٌ کریم الإِضّ: فلاں شخص شریف الاصل ہے۔ الإضـاض: پناہ لینے کی جگہ، جائے پناہ۔

اصـل: اضالیا (ن): ایک قسم کا پودہ جس کے پھول بڑے بڑے اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اسے اَلدَھْلِیا بھی کہا جاتا ہے۔

اضی: الأضاۃ جمع أَضًی و أَضَیات: تالاب، جوہڑ۔

اطّ: أَطَّ ـِ أَطِیطًا: آواز نکالنا۔۔۔ الرجلُ: بھوکا ہونا۔ ـتِ الإبلُ: اونٹوں کا بولنا۔ کہا جاتا ہے۔ أَطَّت لہ رَحِـمِـی: میری رشتہ داری کو اس پر رحم آیا۔ و أَطَّت بِكَ الرَّحِمُ: رشتہ داری نے تیرے لئے ہمدردی اور شفقت کو بیدار کیا۔ هُـمْ أهلُ أطِیط و صـهیل: وہ اونٹوں اور گھوڑوں والے ہیں۔
○ اَطِیط: اونٹ کی کراہنے کی آواز۔
○ اطر: أَطَرَ ـِ أَطْرًا و أَطَرَۃً: کو موڑنا، خم دینا، دوہرا کرنا۔ اِنأطَرَ: مڑ جانا، خم کھانا، دوہرا ہونا۔ تَأَطَّرَ: مڑ جانا، خم کھانا، دوہرا ہو جانا۔ الأُطْـــر: کمان کا خم۔ الإطــار جمع اُطُـر: گھیرا، چوکھٹا، جو چیز کسی شے کو گھیرے۔ جیسے دف اور چھلنی وغیرہ کے چوکھٹے۔ فریم۔ الأُطْرَۃ: ناخن کے گرد کا گوشت الاطیر: گناہ أَخَذَہُ بـأَطِیر غیرہ: اس نے اسے کسی دوسرے کے گناہ پر پکڑا۔
○ اَطَرَ ـِ اَطْرًا و أَطَّرَ ہ: کو موڑنا، خم دینا، دوہرا کرنا۔ اِطَار جمع اِطَـارَات و اُطُر: فریم (جیسے عینک کا) چوکھٹا، ٹائر (پہیے کا) حلقہ، کڑا (جیسے پیپے کا بندوق وغیرہ کی نالی کا) جسم، ڈھانچہ۔
اِطـارۃ: کنارہ، گھیرا، گگر، پہیے کا بیرونی حلقہ، رم (Rim)۔ اِطَارِی: فریم جیسا، کڑے جیسی شکل والا۔
○ اُطْرُغْلَّۃ: کبوتر کی ایک قسم۔
○ اَطْـرُون ۔ نَطْـرُون: (نیٹرون) خصوصاً مصری ملکی پیداوار جو قاہرہ کے شمال مغرب میں واقع وادی نطرون کی نمک کی جھیلوں سے نکالی جاتی ہے۔

اطل: الإطْل و الإطِل جمع آطال و اَیْطَل جمع اَیاطِل: پہلو۔
○ الأَطْلَانْتِیك و الأَطْـلَـنْـطِـیق: بحراوقیانوس۔ أَطْلَانطِقِي و اطلَانْطِي: بحراوقیانوس کے متعلق۔
اطْلَس: ساٹن: (کپڑے کی ایک قسم) جمع اَطـالِـس۔ اٹلس (Atlas) نقشہ نامہ، خریطہ، جغرافیائی نقشوں کی کتاب۔ اطلسی: بحراوقیانوس کا۔ اَطْلَنْطِی: بحر اوقیانوس کا۔ الـحـلف الاطلـنـطی: معاہدۂ بحر اوقیانوس۔

اطـم: ا۔ أَطَمَ الآطـام: قلعوں کو بلند کرنا۔ تـأطَّمَ السیلُ: سیلاب کی موجوں کا بلند ہونا۔۔۔ علیہ: سے بڑا بننا، پرغضبناک ہونا۔ الأُطُم جمع آطام: پتھروں سے بنا ہوا قصر (محل) یا قلعہ، مربع اور مسطح مکان، بلند عمارت، دفاعی قلعہ۔
۲۔ تَأَطَّمَتِ النارُ: آگ کے شعلوں کا بلند ہونا۔ الأَطِیمَۃ جمع اَطَائِم: چولہا۔
۳۔ الأَطُوم جمع اُطُـم و آطِـمۃ (ح): ایک آبی جانور جس کا پچھلا حصہ مچھلی کے مشابہ ہوتا ہے، دو ہاتھ مگر بے پاؤں لمبائی کوئی ۸ قدم۔ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اسے بقر البحر (سمندری گائے) بھی کہا جاتا ہے۔ سمندری کچھوا۔
○ اُطُوم: بحری سنگ پشت، سمندری کچھوا۔
○ آغـا جمع اَغـوات: آقا، مالک، جناب، ہیجڑا، زنخا، مخنث، خواجہ سرا۔
○ الأَغْـرِیق و الأَغَارِقۃ: یونانی، یونان کے باشندے اِغـریـقی: یونانی، یونانی باشندہ، یونانی زبان (کے متعلق) (اسم وصفت)
○ اَغُسْطُس: اگست (مہینہ کا نام)۔

اف: أَفَّ ـُ أَفًّا و تَأَفَّفَ و أَفَّفَ: کرب وبے قراری میں اف اف کہنا۔ الأُفَف: بے قراری، بے چینی، وقت۔ الأُفّ: ناخن کے کٹے ہوئے ٹکڑے۔ کان کا میل۔ اُفٍّ: اسم فعل بمعنی میں بے قرار ہوں، مجھے یہ بات ناپسند ہے۔ کہا جاتا ہے: اُفًّا لہُ و علیہ: اس پر افسوس، صد افسوس، ہے ہے، شرم، شرم الأَفَّاف: بہت اف اف کرنے والا۔
تَـــأَفَّفَ مــن: کے بارے میں شکایت کے طور پر بڑ بڑانا۔ اُفّ: کانوں میں یا ناخنوں کے نیچے) میل۔ کان کا میل، اُفّ! (غصہ یا ناراضگی کے اظہار کے طور پر) اف اف، ہے ہے، افسوس، صد افسوس تَـأَفَّف: بڑ بڑانا

افخ: ا۔ أَفَخَہُ: کے تالو پر مارنا۔ الیـافِوخ جمع یَـآفِیخ: بچے کے سر کا وہ نرم حصہ جو حرکت میں رہتا ہے۔ تالو۔
۲۔ الأَفُخـارستیـا: عیسائیوں کی مقدس قربانی کی ایک رسم۔

افد: ا۔ أَفَدَ ـَ أَفَدًا: جلدی کرنا، صفت آفِد۔۔ و اِسْتَأْفَدَ الترحُّلُ: کوچ قریب آنا۔
۲۔ الأَفُـــود: ایک قسم کا لباس جو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء پہنا کرتے تھے۔ الإفْـرَنـج و الإفْرَنْجۃ و الـــفَـــرَنـــج: یورپین (ترکوں اور رومیوں کے سوا)، یورپ کے لوگ، باشندے۔
○ اِفْرَنْجِی: یورپ کا باشندہ۔
○ اِفْـرَنْسِي: فرانسیسی، الإفْـرَنْسِیَّۃ: فرانسیسی زبان۔ الافـرنسیـون: فرانسیسی (باشندے) اِفْـرِیز جمع اَفَـارِیز: آرائشی پٹی، نگری، کنارہ، حاشیہ، حلقہ، کنارہ فٹ پاتھ، پٹری، افریز المَحَطَّۃ (ریلوے اسٹیشن کا) پلیٹ فارم۔ افریـز الـحائط: کارنس کا آرائشی حاشیہ۔
○ اَفْـرِیقَـا و اِفْرِیقِیَا: (براعظم) افریقہ۔ افـریـقیا الشمالیہ: شمالی افریقہ۔ اِفْرِیقِي (اَفْرِیقِي): ایک افریقی (باشندہ)
○ آفْرِین: شاباش، مرحبا۔

افز: أَفَزَ ـِ أَفْزًا: کودنا، اچھلنا۔

افسن: الأفْسَنْتِین (ن): ایک قسم کی کڑوی نباتاتی دوا۔
○ اِفْسَنْتِین و اِفْسِنْتِین: اَفْسِنْتِین (ایک قسم کی تلخ بوٹی)
اِفْشِین جمع اَفَاشِین: دعائے مغفرت وہ دعائیں جو پادری پڑھتا ہے اور حاضرین اس کا ساتھ دیتے ہیں۔
○ الأفغان: افغان، افغانستانی (باشندے) اَفْغَانِستان: ملک کا نام، افغانی، افغانی (صفت واسم)

افق: ا۔ أَفِقَ ـِ أَفَقًا: آفاق میں جانا۔
أَفِـقَ ـَــ أَفَقًا: سخاوت یا علم میں انتہا تک پہنچنا۔ صفت: آفِـق و أَفِـیق۔ الأُفُقُ الطـریـق: راستہ کا درمیانی حصہ۔ الأُفْـق الأُفُق جمع آفاق: کنارہ (ہم کہتے ہیں: هـو جوَّابُ آفاق: وہ بہت سفر کرنے والا ہے)۔ ہواؤں کے چلنے کی جگہ (فلك): کنارۂ آسمان جو زمین سے لگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شاقول کی ڈوری پر مستقیم سطح۔ اُفُـقِـی: افق کا، افق کے متعلق، افقی۔ الـخط الأفقی: جس پر عمودی خط پڑے۔ الأَفَّاق: کمانے کے لئے سفر کرنے والا۔
۲۔ أَفَقَ ـِ أَفْقًا الجلدَ: چمڑے کو رنگنا صفت مفعولی: افیق جمع آفِقَۃ و أُفُق (یعنی رنگا ہوا چمڑا)۔ الأَفِیقَۃ: رنگا ہوا چمڑہ۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اُفْق و اُفُق : آفَاق : افق: خط جس پر زمین (یا
سمندر) اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ تصور کا دائرہ
یا میدان (جمع): دور افتادہ ممالک، زمینیں، دور افتادہ،
علاقے، صوبے، ملک کے اندرونی حصے آفَاقُ
الأرض زمین کے انتہائی دور کے حصے آفَاقُ
البلاد: ملک کے دور افتادہ حصے شُذَاذُ الآفاق:
اجنبی، مسافر لوگ اُفُقِي: افقي آفاقي: دور کے
ملک یا علاقہ سے آنے والا آفَّاق اِدھر اُدھر پھرنے
والا، مارا مارا پھرنے والا، گھومنے والا، سیر کرنے والا،
آوارہ گرد، بے گھر، بے در۔

افك أَفِكَ ـ أَفْكًا و أَفَكَ ـِ اَفْكًا و اُفُوكًا: جھوٹ
بولنا۔ صفت أَفِك اَفِكَاء و أَفُوك اُفُك و
اَفَّاك اَفَّاكُون۔ أَفَّكَ جھوٹ بولنا الإِفْك
و الإِفْكَة و الأَفِيكَة اَفِيكَة أفائِك: جھوٹ۔
حديثُ الإفك: بے اصل بات۔
٢أَفَكَ ـِ افكَاهُ عن رأيه: کو اپنی رائے سے پھیرنا،
کی رائے کو الٹ دینا ائْتَفَكَ البلدُ باهله: شہر کا
بسنے والوں سمیت الٹ جانا المُؤتَفِكَات: مختلف
سمت چلنے والی ہوائیں۔ وحشتناک اور تباہ کن ہوائیں
(عرب کہتے ہیں: اذا كثرتِ المؤتفكات زكت
الارضُ: جب مختلف سمتوں پر چلنے والی ہواؤں کی
کثرت ہو جاتی ہے، تو زمین خوشگوار ہو جاتی ہے) وہ
بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے مع ان کے بسنے والوں کے
الٹ دیا جیسے صدوم وعمورۃ۔
٣أُفِكَ ـَ المكانُ: جگہ کا بے بارش ہونا اُتُفِكَتِ
الأرضُ: زمین کا خشک سالی سے جل جانا الآفِكَة
و المُؤتَفِكَة من السنين: خشک سال الأَفِيك
و المأفُوك: خیر و بھلائی سے محروم۔
٤أَفِكَ ـَ الرجلُ: ضعیف العقل ہونا الأَفِيك و
المَأفُوك: کمزور رائے والا۔
أَفُوكاتو (ن): ایک پھل دار درخت کا نام۔

أفل: أَفَلَ ـُ و أَفِلَ ـَ اُفُولاً القمر: چاند کا غروب ہونا
صفت آفِل اُفَّل و افول: کہا جاتا ہے فلان
كعبه سَافِلٌ و نجمه آفِل: وہ شخص پھوٹی قسمت
والا ہے أَفَلَ ـُ اُفُولًا و أَفِلَ ـَ اَفَلًا الرجلُ:
خوش و شادماں ہونا أَفِلَتِ المُرْضِعُ: دودھ پلانے
والی کا دودھ ختم ہو جانا تَأَفَّلَ: تکبر کرنا الأَفِيل جمع
أَفَال و اَفَائِل مونث أفيلة: اونٹ کا بچہ۔
أَفَلَ ـِ أُفُولًا: (ستاروں کا) غروب ہونا، نیچے چلا
جانا الأُفُول: ستاروں کا غروب ہونا آفِل: ناپائدار،
آنی جانی، عارضی، دم بھر کا، سرسری، چشم زدن میں۔

اَفْلاطُون : افلاطون (ایک فلسفی کا نام)

افن: أَفِنَ ـَ اَفَنًا و أُفِنَ: کمزور رائے والا ہونا۔ صفت
أَفِين و مأفُون أَفِن ـِ افنًا اللّٰهُ فلانًا: اللہ کا کسی کو
ضعیف العقل بنا دینا ـ الناقةَ اونٹنی کو بے وقت
دوہنا تَأَفَّنَ: بتکلف کسی عادت کو اختیار کرنا
ـ الشيءُ: کم ہونا، ناقص ہونا ـ او اخرَ الامور:
نتائج پر نگاہ رکھنا الإِفَّان: وقت، کہا جاتا ہے جَاءَ
في إفَّانِ ذلك: وہ اس کے دوران آیا۔
الأَفْيُون (ن): افیم۔
افن: بیوقوف أَفِن و مأفون: بے وقوف، احمق،
گاؤدی۔
اَفَنْدِي اَفَنْدِيَة : غیر یورپین مردوں کو جنہوں نے
مغربی لباس کے ساتھ طربوش پہن رکھی ہو کو افندی کہا
جاتا ہے بمعنی شریف آدمی۔ احترام کا خطاب بھی ہے
جو نام کے بعد لکھا اور بولا جاتا ہے۔ جیسے جلال
آفندی افندم: سر، جناب، میں معافی چاہتا ہوں،
آپ نے کیا فرمایا؟
اَفُوكاتو: وکیل، قانون دان الافوكاتو
العمومي: اٹارنی جنرل۔
روح الأفيون : شراب میں حل کی ہوئی افیم۔

اقق: الأُقَّة جمع أُقَق: نصف رطل۔
٢الأَقاقيا: (ن): گرم ممالک خصوصاً آسٹریلیا میں پایا
جانے والا خوشبودار درخت، پھول غالباً پیلے ہوتے
ہیں۔ اسے الشوكة المصرية بھی کہا جاتا ہے۔

اقح: أَقَاحِيُّ الأمر: کسی امر کا آغاز۔
٢الأُقْحُوان و القُحْوَان أَقَاحِي و اَقَاح: واحد
اُقْحُوَانَة و قُحْوَانَة (ن): بابونہ اُقْحُوانُ
الحَدَائِق: ایک قسم کی گھاس جس کی کثرت پودوں
کے لئے سخت مضر سمجھی جاتی ہے۔
اُقْحُوَان اَقَاحِي: گل بہاری، ڈیزی (Daisy)
أَقْرَبَاذِين : مرکب ادویہ الأقرباذين: فن
دواسازی، علم عطاری أقرباذيني: دواسازی یا
عطاری کا یا کے متعلق۔

اقص: الأُقْصُلِيص (ن) : کھٹی سبزی، گھاس یا ساگ،
احماض بھی کہتے ہیں۔

اقط: الأَقْط و الإقْط و الأَقِط و الأَقَط و الأَقِط
و الأُقْط و الإِقِط: پنیر الاقطة: پنیر کا ٹکڑا۔

أَقْلَمَ: جانور، درخت یا انسان کو نئی آب و ہوا کا راس
آنا، اپنے آپ کو (تقاضوں کے) مطابق بنانا، ہم
آہنگ بنانا تَأَقْلَمَ: کو نئی آب و ہوا راس آنا
(مجاز) خوگر ہونا، عادی ہونا اِقْلِيم جمع أقاليم:
موسم، آب و ہوا، علاقہ، خطہ، صوبہ، ضلع، انتظامی ضلع،
بمعنی مدیریہ، ملک، صوبہ اِقْلِيمِي: موسمی، موسم کا
علاقائی، مقامی، بلدیاتی، قلمرو کا، ممالک، محروسہ کا،
وطنی، داخلی المياهُ الاقليمية: علاقائی سمندر۔
اِقْلِيد جمع أقاليد: کنجی، چابی، کلید اُقْلِيدُس: حکیم
اقلیدس، اس کی تصنیف علم اقليدس: علم ہندسہ۔

اقنث: الأَقَنْثَا و الأَقَنْثُوس (ن) : ایک خوبصورت پتوں
والا پودا، بحر متوسط کے ساحلوں پر بہت پایا جاتا ہے۔
اُقْنُوم جمع أقانيم: ذات، جوہر، تثلیث کے
اندر مقدس شخص، تشکیلی عنصر۔
اِقُونَة: بت، مورتی، شبیہ، مجسمہ، بزرگوں کی تصویر جو
دیواروں پر بنائی جائے (مسیحیت)
اُقْيَانُوسِيَة: سمندری۔
اَكَّادِي اکادی (Akkdian)
اَكَادِيمِيَة اکادمی، اکیڈمی، کسی فن کی بڑی درس گاہ،
تربیت گاہ، اعلیٰ فنی یا علمی تعلیم گاہ (Academy)۔

اكت: الاكتينيوم (ك) : حرارت یا نور افشاں غیر پیچیدہ
مادہ۔
اكتوبر : اکتوبر (مہینہ کا نام)

اكد: اَكَّدَ و وَكَّدَ ـِ العَهْدَ او السرجَ: عہد یا
زین کو مضبوط کرنا، مضبوط باندھنا تَأَكَّدَ و تَوَكَّدَ
مضبوط ہونا، سخت ہونا الأَكِيد: مضبوط، مُحْكَم،
ثابت الأكائِد و التآكِيد: وہ تسمے جن سے زین
کے آگے کے حصہ کو باندھتے ہیں۔ ایک کو اکاد کہتے
ہیں۔
٢أَكَّدَ و وَكَّدَ الشيءَ: کو ثابت کرنا، جمانا، قائم کرنا،
نصب کرنا تَأَكَّدَ و تَوَكَّدَ : قائم ہونا، جمنا، فیصلہ
ہونا الأكيد: ثابت، پختہ۔
٣الأكيدنيا (ن): درخت جس کے پھل خوشوں کی شکل
میں لگتے ہیں۔ ذائقہ میں لذیذ، یہ گرم علاقوں اور بحر
متوسط کے ساحلوں پر بویا جاتا ہے۔
اَكَّدَ لَه: سے کوئی بات وثوق سے کہنا، کو کا یقین
دلانا، کو کی یقین دہانی کرانا أن: کو کوئی بات وثوق
سے کہنا کہ، کو یقین دلانا کہ ـ ه: (رائے وغیرہ
کی) توثیق کرنا، تصدیق کرنا، کو مستحکم کرنا، پکا کرنا،
تَأَكَّدَ من کا قائل ہونا، یا ہو جانا، کا یقین کرنا، یا
کر لینا، کا یقین کرنا ـ : فوری ہونا، تعمیل طلب ہونا،
اشد ضروری ہونا، مطلوبہ (شے) ہونا تأكيد جمع
تاكيدات: یقین دہانی۔ یقین، اعتبار، طمانیت،
بھروسا، منظوری، تاکید، تصدیق، استحکام، تاکید، زور۔
كباو بالتاكيد: قابل اطمینان، طور پر، بلاشبہ، بالیقین۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
marfat.com
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بالضرور، لازماً، یقیناً، بے شک۔ التاکد طمانیت، یقین، اعتبار، اندیشے دور کرنا۔ أکیدٌ یقینی، صحیح، پر یقین، یقین رکھنے والا، پختہ (ارادہ وغیرہ) واضح (خواہش) فوری، اشد ضروری (حاجت) اکیداً: یقیناً، قطعاً، بے شک، لازماً، امید کامل ہے کہ......
مُؤَکَّد یقینی، حتمی، پر یقین، صحیح، معین، غیر مبہم، واضح مستحکم، پختہ، تغیر ناپذیر، مُتَاکِد مطمئن قائل، کا یقین رکھنے والا۔

اکر: اَکَرَ ـُ أَکْرًا و تَأَکَّرَ الارض زمین کو پھاڑنا اور اس میں کاشت کرنا۔ الأَکَّار جمع أکَرَة و أَکَّارون کاشت کار الأُکَر جمع اُکْرَة گیند۔ الإکارات (عند الفقہاء) کاشت کے لئے دی جانے والی زمین۔

۲۔ الأُکار ایک آلہ طرب۔

۳۔ الأُکور دیو ایک آلہ طرب۔

○ اَکَرَ ـِ أَکْرًا (زمین) پر ہل چلانا، کاشت کرنا۔ فصل اگانا یا پیدا کرنا۔ اکَّار جمع اکَّارون و اَکَرَة: کاشت کار۔ اُکَر جمع اُکَرَة (کھیلنے کی) گیند۔

اِکْزِیما کھجلی، خارش، اگزیما (eczema)

اکس: آشِعَةُ إِکْس ایکسرے۔

اکل: أکاسیا یا رُوبِیلیَا ایک درخت جس کی شاخیں خاردار ہوتی ہیں، پھول خوشبودار، سفید یا گلابی رنگ کے۔ یہ درخت امریکی الاصل ہے۔

۲۔ الأُکْسَدَة: (لوہے) کا آکسیجن سے ملاپ کی قسم کا، ایک لوہے کو زنگ لگنا اور دوسرا مادوں کا جلنا۔ الأُکْسِید (ج) آکسائیڈ۔ اکسید (Oxide) آکسیجن کا دوسرے عنصر کے ساتھ ایک کیمیاوی مرکب۔ المُؤَکْسَد (وہ) مادہ جس کو آکسیجن نے ترک کر دیا ہو۔

۳۔ الأُکْسَر خولیک کلیسائی رتبہ۔

۴۔ الأُکْسِجِین آکسیجن: بے رنگ اور بے ذائقہ گیس جو سانس لینے اور چیزوں کے جلنے کے لئے ضروری ہے (Oxygen)

○ أَکْسَدَ آکسیجن ہونا، آکسیجن کے ساتھ مرکب بنانا، زنگ آلود ہونا۔ تَأَکْسَدَ آکسیجن سے مرکب ہونا، زنگ آلود ہونا۔ اکسید جمع اکاسید آکسائڈ (Oxide)

○ اکسفورد آکسفورڈ Oxford

○ اکسیجین آکسیجن Oxygen

○ اِکْسِیر اکسیر (elixir)

اکف: أَکَّفَ و آکَفَ إیکافًا الحمار گدھے پر پالان کسنا۔ الأُکاف پالان بنانا۔ الأُکاف جمع أُکُف و آکِفَة پالان۔ الأَکَّاف پالان بنانے والا، پالان بیچنے والا۔

اکل: أَکَلَ ـُ أَکْلًا و مَأْکَلًا الطعام کھانا کھانا۔ أَکَّلَ و آکَلَ ایکالاً فلاناً الشئ کسی کو کوئی چیز کھلانا۔ آکَلَهُ مُؤَاکَلَة کے ساتھ کھانا، کو کھلانا۔ اِئْتَکَلَ بعض کا بعض کو کھانا۔ ـــ ت النار آگ کا سخت بھڑک اٹھنا۔ ـــ من الغضب غصہ سے جل اٹھنا۔ اِسْتَأْکَلَهُ الشئ کھانا تیار کرنے کے لئے کہنا۔ فلانٌ یستاکل الضعفاء فلان شخص ضعیفوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ الأُکُل و الأُکْل، کھانے کی چیز، خوراک، کشادہ روزی۔ الأُکْلَة، غیبت، آکِلُ النمل (ایک چیونٹی خور جانور الأَکِلَة عضو کو کھانے والی بیماری۔ الأَکُول والأَکِیل و الأَکُول و الأکلة کھانے والا پیٹو۔ المَأْکَل ماکول خوراک۔ المَأْکَلَة: چیز کھائی جائے۔ خوراک المِئْکَلَة چھوٹا پیالہ۔ المِئْکَل ماکول۔ الماکول ماکیل: خوراک۔ الماکول و المشروب کھانے اور پینے کی چیز۔ شئی خورد و نوش۔

۲۔ اَکَلَ ـُ اَکْلاً و مَأْکَلاً الشئ کو فنا کرنا۔ ہم کہتے ہیں: اَکَلَ فلانٌ عمره فلاں شخص نے اپنی عمر فنا کر دی۔ اَکِلَ ـَ اَکَلاً و تَأَکَّلَ السِنُّ او العودُ: دانت یا لکڑی کا کھوکھلا ہو کر گر پڑنا۔

۳۔ أَکَلَهُ ـُ إِکْلاً و أُکالاً و أَکالاً راس کھجلانا۔

○ اَکَلَ ـُ أَکْلًا و مَأْکَلًا کو کھانا، تباہ کرنا، کو جلدی جلدی کھانا، ہڑپ کرنا، نگلنا، بے تحاشا کھانا، کو بھسم کر دینا، کھا جانا، تلف کرنا، کاٹنا، کترنا، گھن کی طرح کھا جانا، گھس دینا، گھس اگانا، کاٹ ڈالنا، کو ناجائز طور پر خرچ کرنا، ــ سے اپنے آپ کو مالدار بنانا۔ ــ سے اپنا گھر بھرنا، اکل علیہ الدھرُ و شَرِب بوڑھا ہونا اور تھک جانا، پرانا ہونا، دقیانوسی ہونا۔ اکل الربا: بھاری سود لینا۔ یعلم من این تُؤکَلُ الکتفُ جانتا ہے کہ معاملہ کس طرح مناسب طور پر سلجھائے۔ اکلہ جلدہ اس کی جلد میں کھجلی ہوئی۔ اکل فی صَحْنٍ ایک پلیٹ کھا گیا۔ اکل حقہ حقوق پر غاصبانہ قبضہ کرنا أَکَّلَ وَ آکَلَ ہ کو کچھ کھانے کو دینا، کو کچھ کھلانا۔ آکَلَهُ کے ساتھ کھانا کھانا۔ تَأَکَّلَ کھایا جانا، تلف ہونا، بھسم ہونا، برتا جانا، کھایا جانا، ختم ہونا، گھس جانا، گل جانا، گھل جانا، پرانا ہونا، دقیانوسی ہونا، درزوں یا شگافوں والا ہونا، گھل اور گل کر ختم ہو جانا۔ اَکْل کھانا، چارہ، بھوسہ، گھاس، دانہ، دودھ، راتب، ہری بھری کھیتی۔ غُرْفَةُ الأکل کھانے کا کمرہ، اکل البحر سمندر بردہ زمین۔ اُکُل و اُکْل خوراک، پھل، اَتَی اُکُلَهُ بار ہونا۔ اَکْلَة جمع اَکَلات خوراک، کھانا۔ اُکْلَة لقمہ، نوالہ۔ اُکال کھجلی، خارش، اَکَّال و اَکِیل و اَکُول پیٹو، بسیار خور، کھاؤ، ندیدہ، پیٹ بھر کر کھانے والا، خوش خوراک، مَأْکَل جمع مَآکِل خوراک، اشیائے خوردنی۔ تَأَکُّل استعمال سے پہنچنے والا نقصان کھایا جانا۔ گھل جانا، گھس جانا، تحلیل، کٹاؤ۔ اِنْتِکال کٹاؤ، کٹ جانا، کھایا جانا۔ آکِل کھانے والا آکِلَة کھا ہوا پھوڑا۔ مأکول خوردنی، کھائے جانے کے قابل، کھانے کے قابل، جمع مأکولات: خوراک، اشیائے خوراک، اشیائے خوردنی۔ مُؤَاکِل ساتھ کھانے والا، دسترخوان کا ساتھی۔ مُتَأَکِّل و مُتَآکِل کھایا ہوا، کاٹ ڈالا ہوا، کٹا ہوا، گھسا ہوا، (تیزاب) خورد گھن زدہ، گلا ہوا، پرانا، دقیانوسی، خراب، شگافوں اور درزوں سے پر، زنگ آلود، زنگ خوردہ۔

إِکْلِیرُوس تمام پادری، اہل کلیسا، اِکْلِیرُوسِیَة: پادریوں کا پیشہ، کلیسائیت۔ إِکْلِیرِیکِی پادریانہ، باباشاہی۔

إِکْلِینِیکِی مطب کا، طبی۔

اکم: إِسْتَأْکَمَ الموضعُ کا ٹیلہ بن جانا۔ الأَکَمَة جمع أَکَم و أَکَمات و جج آکام و أُکُم و إِکام۔

○ اَکَمَة جمع اَکَمات و إِکام و أُکُم و آکام (اسم جنس) پہاڑی، چٹانوں کا سلسلہ، سمندر میں سطح کے برابر اونچی چٹان، ڈھیر، وراء الأکمة ما وراء مشکوک یا مشتبہ (چیز)، بات کچھ اور ہے۔

ال الف تعریف ا۔ عہدی جیسے: اشتریت عبداثم بعتُ العبدَ میں نے ایک غلام خریدا، پھر میں نے اس غلام کو بیچ دیا۔ ۲۔ جنسی جیسے: خُلِقَ الانسانُ ضعیفًا: انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ (۳) اسم موصول جو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے: الحامل اٹھانے والا۔ المحمول: اٹھایا ہوا۔

الّ: اَلَّ ـُ اَلًّا الرجلَ جلدی کرنا۔ کو نیزہ سے مارنا، دھتکار دینا ـــ اللون رنگ کا صاف اور چمکیلا ہونا۔ اَلَّ ـِ اَلًّا و اَلَلاً و أَلِیلًا المریضُ کا کراہنا۔ ـ الرجُلُ فی دُعاءِہ اپنی دعا میں گڑگڑانا۔ اِلِلَتَ ـَ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

أَلَأَ الاسْنَانُ: دانتوں کا خراب ہوجانا۔ اَلَّلَ الشئَ: کونوکدار یا دھار یدار بنانا۔ الاِلّ: عہد، گڑگڑانا، عمدہ اصل، دشمنی، کینہ، الاَلّۃ: برچھی، لڑائی کے ہتھیار۔ فرسٌ مِئَلٌّ: تیز رفتار گھوڑا۔

۲۔ اِلّ: عہد، معاہدہ، عہد و پیمان، قول و قرار، خونی رشتہ، برادری، یگانگت، قرابت۔

الَّا = اَنْ لا: ایسا نہ ہو کہ، مبادا، خدانخواستہ، اس خوف سے کہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو، تا کہ نہ۔

اِلّا = اِنْ لا: اگر نہ، جب تک نہ کے سوا نے، کے سوا، (نفی کے بعد): لیکن، مگر سوائے، اس کے کہ، اِلَّا اَنَّ: مگر یہ کہ، تاہم، لیکن، مگر، پھر بھی، بایں ہمہ، اِلَّا اِذَا: اگر نہ، جب تک نہ، مگر جب وَاِلّا: اور اگر نہ، ورنہ اِلَّا وَھُوَ: جب تک وہ نہ، بجز اس کے کہ وہ۔ وَمَاھِیَ اِلَّا اَنْ: فوراً، اسی وقت، بلا تاخیر، بہت جلد۔ وَمَا ھِیَ اِلَّا اَن حتی: جونہی کہ، جیسے ہی اس نے......، تو فماھی الا اَن ھَمَّ حتی فَعَلَ: جونہی اس نے نیا منصوبہ بنایا، اس نے اس پر عمل کر ڈالا۔

الا ا۔ اَلَا: شروع کلام میں آ کر یہ صرف اپنے مابعد کے مضمون پر زور دیتا ہے اور اس کے تحقق کو ثابت کرتا ہے جیسے: اَلَا اِنَّھُمْ ھُمُ السفھاءُ: خبردار ہو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں (۲) صرف تنبیہ کے طور پر آتا ہے جیسے اَلَا یا صاحِ قُمْ: خبردار اے میرے ساتھی کھڑا ہو جا۔ (۳) حرف عرض: اَلَا تنزِل بنا: کیا آپ ہمارے ہاں نہیں اتریں گے۔ (۴) حرف تحضیض: اَلَا تتوب و ترتدّ عن غیّك: خبردار، توبہ کر اور اپنی گمراہی سے باز آ جا۔

۲۔ اَلَّا: حرف تحضیض جیسے اَلَّا تکرم ابویك: تو اپنے والدین کی عزت کیوں نہیں کرتا۔

۳۔ اِلاَّ: حرف استثناء جیسے جاء القومُ اِلا زیدًا: زید کے علاوہ سب لوگ آئے۔ صفت کے لئے غیر کے معنی میں: جیسے لی رجالٌ الا رِجالُك: میرے آدمی تیرے آدمیوں کے علاوہ ہیں۔ نفی کے بعد حرف حصر جیسے: ماضربَ الازیدٌ: زید نے ہی مارا۔

اَلاَسکا الاسکا (ملک کا نام)

اَلّای و آلای جمع اَلّیات: پلٹن، رجمنٹ (regiment)

البا۔ اَلَبَ ـِ اَلْبًا: جمع کرنا۔ اَلَبَ ـُ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ اَلَّبَ: لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں میں فساد ڈالنا۔ (ضد) تَاَلَّبَ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الاِلْب: کسی ایک شخص کی عداوت پر جمع ہونے والی قوم (کہا جاتا ہے: ھم عَلَی اِلْبٌ واحِدٌ: وہ سب میری عداوت پر متحد و متفق ہیں)۔ انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان کا فاصلہ۔

۲۔ الاَلْبَکَۃ (ح): جنوبی امریکا کا ایک جگالی کرنے والا جانور، اونی کپڑا جو اس جانور کے بالوں سے بنا گیا ہو۔

اَلَبَ ـِ اَلْبًا: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، مل کر کام کرنا تاکہ مشترکہ مقصد حاصل کیا جائے۔ اَلَّبَ ہ علی: کو کے خلاف اکسانا، تَاَلَّبَ علی: کے خلاف مجتمع ہونا، جتھا بنانا، سازش کرنا، ساز باز کرنا، گٹھ جوڑ کرنا۔ جبال الاَلْب: کوہ آلپس (Alps)۔ الاَلْبان: البانیا کے باشندے، اَلْبانیا: ایک ملک کا نام۔

اَلَتَ ـِ اَلْتًا الشیءُ: کم ہونا، تھوڑا ہونا۔ ـ الرُجلَ حقَّہٗ: کو اس کا حق کم دینا، کے حق میں کمی کرنا۔ ـ الرجلَ: کو اس کے ارادہ سے پھیرنا اور باز رکھنا۔ ـ ہ یَمِینًا: کو قسم دلانا۔ اپنے حق میں گواہی دینے کے لئے کہنا۔ آلَتَ اِیْلَاتًا: بمعنی اَلَتَ۔ الاُلْتَۃ: تھوڑا عطیہ، جھوٹی قسم۔

الخ: اِلی آخِرِہٖ: کا مخفف بمعنی وغیرہ وغیرہ۔ وقِسْ عَلَی ھذا۔

الذی: اَلَّذِی: اسم موصول، تثنیہ الذَّانِ واللذَینِ جمع الَّذِینَ والَّذُونَ: تصغیر: اللَّذَیَّا واللذیان و اللذیّون مونث التی جمع اللواتی و اللاّتِ و اللاءی تثنیہ: اللتَانِ و اللتان تصغیر: اللتیَّا و اللُّتَیَّا: جو (شخص یا چیز) جس، جس نے، وہ جس نے، (کہا جاتا ہے: وقع فلان فی اللّتیا والتی: وہ چھوٹی بڑی مصیبتوں میں پھنس گیا)۔

انگریزی میں الذی الخ ان معنوں میں آتا ہے: he, who, that, which, who, that which.

بَعْدَاللُّتَیَّا والَّتِی: لمبی چوڑی بحثوں کے بعد، بعد از خرابی بسیار، خدا خدا کر کے۔

اَلزَاس: شمال مشرقی فرانس کا علاقہ۔

الس ا۔ اَلَسَ ـِ اَلْسًا: ہ سے خیانت کرنا، کو دھوکا دینا۔ آلَسَہٗ مُؤَالَسَۃً: سے غداری کرنا، خیانت کرنا، کہا جاتا ہے: ھو لایُدالس ولا یُؤالس: وہ نہ تو دھوکا دیتا ہے نہ خیانت کرتا ہے۔ الاَلْس: خیانت۔

۲۔ اُلِسَ: دیوانہ ہونا صفت: مَاْلُوس، الاَلْس: جنون، دیوانگی۔

اَلَّسَ علی: کی تحقیر کرنا، بے وقعتی کرنا، کو بدنام کرنا، حقیر سمجھنا، کا حقارت سے ذکر کرنا، کو گھٹا کر دکھانا۔

الف: اَلِفَ ـَ اَلْفًاہٗ: سے مانوس ہونا، محبت کرنا۔ ـ المکانَ: کسی جگہ سے مانوس ہونا۔ آلَفَ اِلافًا و مؤالفۃً ہ: کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سے دوستی کا برتاؤ کرنا۔ ـ ہ المکانَ: کو کسی جگہ سے مانوس کرنا۔ اَلَّفَ بینھم: لوگوں میں الفت و محبت پیدا کرنا۔ تَاَلَّفَہٗ: سے بناوٹی دوستی رکھنا، سے اوپری دل سے محبت کرنا۔ اِسْتَاْلَفَ: دوست و ساتھی تلاش کرنا۔ الاِلْف جمع آلاف و اَلِیف جمع الاَئِف و آلِف جمع الّاف: دوست، مونس اَوَالِفُ الطیر: گھر میں رہنے والے پرندے۔ الاِلْف و الاُلْفَۃ: دوستی، انس و محبت، الاِیْلاف: عہد، پروانہ راہداری۔ المَاْلَف جمع مآلِف: جس سے لوگ الفت و محبت رکھیں۔ لوگوں کی مرغوب شئے۔ الاَلُوف جمع اُلُف: بہت محبت کرنے والا۔ صدیقٌ اَلُوفٌ: گہرا دوست، جگری دوست۔

۲۔ اَلَّفَ الشیَٔ: بعض کو بعض سے ملانا۔ ـ الکتابَ: مسائل کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا۔ تَاَلَّفَ الشیُٔ: چیز کا نظم و ترتیب میں ہونا۔ تَاَلَّفُوا: جمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ اِئْتَلَفُوا و تَآلَفُوا: جمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ التَّاْلِیف و المُؤَلَّف: کتاب (جس میں کسی علم کے مسائل جمع کئے گئے ہوں)۔ المُؤَلِّف: کتاب کا مصنف۔

۳۔ اَلَفَ ـُ اَلْفًاہ: کو ایک ہزار دینا۔ آلَفَھُمْ: کو ہزار بنانا۔ آلَفُوا: ایک ہزار ہونا اَلَّفَ الاَلْفَ: پورے ہزار کرنا۔ الاَلْف جمع الُوف و آلاف: ہزار (1000)

۴۔ الاَلِف: حروف تہجی کا پہلا حرف: ا (الف) کتابُ الالف باء: کتاب جس میں عربی کے حروف تہجی پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک الالف و الیاء: اول و آخر (ہر چیز کا)۔ ھذا الأمر ھو الالف و الباء: یہ معاملہ سب کچھ ہے۔ الاَلِفِیّۃ: الالف سے منسوب۔ اصطلاحاً، عربی علوم میں سے کسی علم کے قواعد جو شعروں میں بیان کئے گئے ہوں۔ مطلق الفیہ سے مراد الفیہ بن مالک ہے، جو علم نحو میں منظوم کتاب ہے۔

اَلْف جمع الُوف و آلاف: ہزار، ہزار سال، ہزار سالہ مدت۔ الُوفٌ مُؤَلَّفَۃٌ آلافٌ مُؤَلَّفَۃٌ: ہزاروں اور ہزاروں۔ عَشَرَاتُ الاُلُوف: دسیوں ہزار مِئاتُ الاُلُوف: سینکڑوں ہزار۔ عِیدٌ اَلْفِی: ہزار سالہ تقریب۔ اِلف: حروف تہجی کا پہلا حرف الف۔ من اَلِفِہٖ اِلی یائِہٖ: شروع سے آخر تک۔ الف سے ے تک A سے Z تک۔ یعرف اَلِفَہٗ و باءَہٗ: وہ الف سے بے تک جانتا ہے۔ الف باء: الف بے، الفباء: ابجد ABC۔ اَلِفَ ـَ اَلْفًا: ـ سے واقف ہونا، شناسا ہونا، بے تکلف ہونا، کا ماہر ہونا، خوب واقف ہونا۔ ـ ہ: سے گہرے تعلقات ہونا۔ ـ حکا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عادی ہونا یا ہو جانا، خوگر ہونا یا ہو جانا، کو پسند کرنا، کا شائق ہونا، ــــ پالتو ہونا۔ أَلَّفَ ہٗ: کو کا عادی بنانا، خوگر بنانا۔ ــــ جانور کو پالتو بنانا، سدھانا، (کمیٹی یا حکومت) تشکیل دینا۔ ــــ بین: کو متحد کرنا، ملانا، اکٹھا کرنا، (کتاب) مرتب کرنا۔ تالیف کرنا، مدوّن کرنا، ترتیب دینا، لکھنا۔ تَأَلَّفَ من: پر مشتمل ہونا۔ ــــ: متحد ہونا، یکجا ہونا، ملنا۔ تَـــآلَفَ: ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونا، سر ملے ہوئے ہونا، میل کھانا۔ ــــ مع: سے ہم آہنگ ہونا۔ اِئْتَلَفَ: متحد ہونا، مربوط ہونا، جڑا ہوا ہونا۔ ــــ ب: کے ساتھ جگری تعلقات ہونا، بے تکلف ہونا۔ ــــ: گٹھ جوڑ، اتحاد یا اشتراک بنانا۔ ــــ مع: کے لئے، موزوں ہونا، سے ہم آہنگ ہونا۔ ــــ: باترتیب ہونا، صاف ستھرا یا سلیقے کا ہونا۔ اِسْتَأْلَفَ ہٗ: سے گہری دوستی کا خواہاں ہونا، کی دوستی کا خواستگار ہونا۔ اِلْف جمع آلاف: گہرا، جگری، قریبی دوست، راز دار، ہمراز، محرم، عاشق۔ اُلْفَۃ: واقفیت، آشنائی، بے تکلفی، گہری دوستی، دوستانہ، دوستی، محبت، چاہ، لگن، پیار، اتحاد، اتفاق، ہم آہنگی، موافقت، اَلِیف: جانا بوجھا، واقف آشنا، شناسا، گہرا، جگری، قریبی، پالتو یا سدھایا ہوا (جانور)، دوستانہ، پرامن، ملنسار، خوش مزاج جمع اَلائِف: قریبی، جگری، گہرا دوست، ساجھی، شریک ہم صحبت یا ساتھی، اَلُـــوف: واقف، شناسا، آشنا، جگری، قریبی، پالتو یا سدھایا ہوا (جانور): وابستہ، لگاؤ رکھنے والا، جاں نثار، وفادار، وفاشعار، وقف وفا۔ تَالِیف: (حکومت کی) تشکیل، (مختلف چیزوں) کا اتصال، اتحاد، اتفاق، دھڑا، ایکا، ادبی تصنیف، (کتاب کا) لکھنا، تدوین، ترتیب۔ (مضمون کا) لکھنا۔ جمع تَآلِیف و تَوالِیف: کام، کتاب، (شائع شدہ) کتاب وغیرہ۔ اِئْتِلافی: گٹھ جوڑ، اتحاد یا اشتراک کا۔ وزارۃٌ إئتلافیۃ: گٹھ جوڑ والی کابینہ۔ مَألُوف: جانا بوجھا، جانا پہچانا، عادی، عام، معمول کے مطابق، حسب عادت، ٹھیک، حسب معمول، رواجی، رواج، رسم، دستور، طریق استعمال، محاورہ۔ مُؤَلِّف: مصنف، لکھنے والا۔ مُؤَلَّف من: پر مشتمل۔ ــــ: لکھا ہوا، مُدَوَّن، مُرَتَّب جمع مُؤَلَّفات: کتاب، شائع شدہ کتاب۔ مُتَآلِف: ہم آہنگ، مطابق۔

الق ۱- اَلَقَ ــِ اَلْقًا و تَأَلَّقَ و اِئْتَلَقَ البرق: بجلی کا چمکنا، بجلی کا کوندنا۔ تَأَلَّقَتِ المرأۃ: عورت کا بننا، سنورنا، سنگھار کرنا، تَـــأَلُّق (ف) دمک، تمتماہٹ، سرخی، تابانی، تابندگی، درخشانی، درخشندگی، الإلاق: بغیر بارش کے بجلی۔

۲- أَلِقَ ــَ أَلْقًا الرجُلُ: جھوٹ بولنا۔ الإلْق جمع إِلَق: بدخلق، بھیڑیا۔

۳- أُلِقَ أَلْقًا: دیوانہ ہونا، مجنون ہونا، صفت مَـأْلُـوق و مَألوق۔ الأَوْلَق: جنون، پاگل پن۔

○ أَلَقَ ــِ أَلْقًا: چمکنا، روشن ہونا، شعاعیں نکالنا، شعلہ فشاں ہونا، بھڑک اٹھنا، دمکنا۔ أَلَـــق: چمک، دمک، آب و تاب۔ تَـأَلَّقَ و اِئْتَلَقَ: بمعنی أَلَقَ۔ الآلِق: چمکیلا، چمکدار، درخشاں، تابندہ، روشن، تاباں، مُنَوَّر، شعلہ فشاں، تَـأَلُّق: آب و تاب، تابانی، تابندگی، درخشانی، درخشندگی، دمک، تمتماہٹ، سرخی، مُتَـــأَلِق: چمکیلا، چمکدار، تابندہ، درخشاں، روشن، منور، تاباں۔

الك ۱- أَلَكَ ــِ أَلْكًا و أُلُوكَۃً و أُلُوكًا و مَأْلَكًا و آلَكَ إلاكۃً: پیغام پہنچانا۔ اِسْتَأْلَكَ أَلُوكَتَہٗ: کا خط یا پیغام لیجانا۔ المَـلَكُ والمَلاكُ جمع مَلائِك و مَلائكۃ: مَلْأَك کا مخفف اصل میں مَأْلَك ہے بمعنی بھیجا ہوا۔ فرشتہ (روح بلا جسم) الأَلُـوك و الألُوكَۃ والمَأْلُك والمألُكَۃ جمع الأَلِك و مَآلِك: پیغام۔

۲- الإلَـكْتَـــرون (ف): الیکٹرون، برقیہ، منفی، برقیہ (electron)۔

○ اِلِـكْتَرونی: الکٹرون کا، الیکٹرون سے متعلق عقل الـكتــرونـی: الیکٹرونی کمپیوٹر (electronic computer)

الم ۱- أَلِمَ ــَ أَلَمًا: دکھی ہونا، درد والا ہونا صفت: أَلِم۔ أَلَّمَ تَأْلِيمًاہٗ: کو دکھ دینا، درد پہنچانا۔ آلَمَہٗ إیلامًا: کو دکھ دینا۔ درد پہنچانا۔ تَأَلَّمَ: دکھی ہونا، درد مند ہونا۔ الأَلِيـم: دردناک، دکھ دینے والا۔ تکلیف دینے والا۔

۲- الألماس (ك): ہیرا۔

۳- الألومينيوم (ك): الومنیم Aluminium ایک سفید دھات۔

○ اَلِمَ ــَ أَلَمًا: تکلیف میں ہونا۔ تکلیف محسوس کرنا۔ ــ ب: میں مبتلا ہونا، تکلیف وغیرہ محسوس کرنا۔ أَلَّمَ و آلَمَ ہٗ: کو تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا، دکھ دینا، ایذا دینا۔ تَـأَلَّـمَ: تکلیف میں ہونا، تکلیف محسوس کرنا۔ شکایت کرنا۔ اَلَــم جمع آلام: تکلیف، درد، دکھ، مصیبت، روحانی اذیت، آلامٌ نفسانیۃٌ: ذہنی اذیت، اسبوع الآلام: ہفتہ مصائب (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اَلِيـم: دردناک۔ تکلیف دہ، اذیت ناک، سخت، المناک، پرملال، شدید، غم انگیز، دلخراش۔ تَـأَلُّـم: تکلیف، درد، درد کا احساس۔ مُـؤْلِـم: دردناک، تکلیف دہ، غم انگیز، المناک، رنجیدہ۔ مُتَأَلِّم: تکلیف دہ، دردناک، تکلیف میں مبتلا، مصیبت میں (مبتلا)۔ سخت دکھ و تکلیف میں۔ سخت کوفت زدہ، اذیت زدہ۔

الہ ۱- أَلَـہَ ــَ أُلُوهَۃً و إلاهَۃً و أُلُوهِيَّۃً: بندگی کرنا۔ أَلَّهَہٗ: کو معبود بنانا، خدا کا مرتبہ دینا، کو غلام بنانا۔ تَـأَلَّہَ: خدا ہونا، معبود بن جانا، عبادت کے لئے علیحدہ ہونا، تارک دنیا ہونا، زاہد ہونا۔ اِسْتَـأْلَہَ: معبود سے مشابہ ہونا۔ الإلَہ جمع آلِهۃ: معبود، خدا، اللہ، اللّٰہ: ذات واجب الوجود کا نام۔ اَللّٰهُـمَّ: یا اللہ، اے اللہ الأُلُوهَۃ و الأُلاهَۃ و الإلَهِيَّۃ و الأُلُوهِيَّۃ و الأُلهانِيَۃ: معبودیت، خدائی۔ الإلَهِيّات: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بحث کرنے والا علم۔

۲- أَلِہَ ــَ أَلَهًا: حیران ہونا، کہا جاتا ہے: أَلِهْتُ علیہ میں نے اس پر بہت جزع فزع کیا۔

○ أَلَّہَہٗ: کو دیوی دیوتا بنانا، پوجنا، معبود ٹھہرانا، تَأَلَّہَ: دیوتا یا دیوی بن جانا، اللہ خدا، دیوتا یا دیوی بن جانا، إلـــہ، إلاہ: جمع آلِهۃ: خدا، دیوتا، دیوی، إلاهَۃ جمع إلهات: دیوی۔ إلهی و إلاهی: خدا کا، خدائی، ربانی، خداداد، آسمانی، نورانی، علم الٰہی کا، علم معرفت کا، دینیات کا، الإلاهِيات: دینیاتی و روحانی معاملات۔ علم الالاهیات: دینیات، علم کلام۔ اللّٰہ: اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک لہ، لِلّٰـہِ دَرُّكَ: (لفظی طور پر: تیری کامیابی اور امتیاز اللہ کے کرم سے ہے)، تو کتنا قابل، کتنا اچھا اور کس قدر معقول (عمدہ ہے) اَللّٰهُـمَّ: اے اللہ، اے خدا! اَللّٰهُـمَّ إلّا: جب تک نہ، ایسا نہ ہو، کے سوائے یا سوا، زیادہ سے زیادہ (منفی بیان کے بعد)۔ اَللّٰهُمَّ إذا: اگر یا جب کم از کم، کاش، اگر ذرا۔ اَللّٰهُمَّ نـعـم: خدا کی قسم، ہاں، نہایت ہی یقیناً۔ الُوهیۃ: خدائی طاقت، خدائی، الوہیت، تَأْلِيہ: دیوی دیوتا بنالینا، معبود ٹھہرانا، خدا قرار دینا، آلِـــہ: معبود آلِهۃ جمع آلِهات: دیوی۔ آلِهی: خدائی، الٰہی۔ مُتَـأَلِّہ: خدائی، الٰہی، آسمانی، اللاهوت: دیکھو لاھوت۔

الا: أَلَا ــُ أَلْوًا و أُلُوًّا و أُلِيًّا و أَلَّی تَأْلِيَۃً و اِئْتَلَی اِئْتِلاءً فی الأمر: کام میں کوتاہی کرنا، دیر لگانا، کہا جاتا ہے: لَمْ يَأْلُ جهدًا: اس نے کوشش کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ آلَی إيلاءً و تَأَلَّی و اِئْتَلَی: قسم کھانا، کہا جاتا ہے: آلَيْتُ أفعل كذا: میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ نہیں کروں گا (فعل قسم کے بعد لا کے حذف سے)۔ الأَلْـو: عطیہ، بکری کی مینگنی الأَلُوُّ و الأَلُوَّۃ و الأُلُوَّۃ و الإلِيَّۃ جمع أَلاوِيَۃ: اگر کی لکڑی۔ الأَلْوَۃ و الأُلْوَۃ و الأَلِيَّۃ اور أَلِيَّۃ جمع الَايا: قسم۔ الأَلِيُّ: بہت قسمیں کھانے والا۔ المِئْلاۃ جمع مَآل:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وہ رومال جس کو نوحہ کرنے والی عورت اپنے ہاتھ میں لے کر روتی ہے۔

الی: أَلِيَ ـَـ أَلَيًا الکبش کی چکی کا بڑھ جانا۔ صفت: أَلْيَان و آلیٰ مؤنث أَلْيَا و أَلْيَ جمع أُلّی۔ الأَلْيَة تثنية أَلْيَان غیرت کے) جمع الأَلَايَا و أَلَيَاتٌ دنبہ کی چکی۔

۲۔ الإِلْي والإِلَى والأَلْي جمع آلاء نعمت۔

۳۔ الأَلاء و الأَلَى (ایک ہمیشہ سرسبز رہنے والا درخت جس کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ واحد الأَلاءَ ة۔

۴۔ الأَلاجُ جمع الأَيا فنج کا دستہ۔ (یہ ترکی لفظ ہے۔ اس کی عربی الفيلق ہے)۔

إِلی: حرفِ جر ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں۔

(ا) زمانی ومکانی انتہاء کیلئے جیسے: درس إلى المساء و سار إلى البيت: (اس نے شام تک پڑھا، وہ گھر گیا۔

(ب) عند کے معنی میں: جیسے: كلامهُ أشهى إلى من الرحيق: اس کی گفتگو میرے نزدیک شراب سے زیادہ مرغوب ہے۔

(ج) لام کے معنی میں: الامرُ إليك: معاملہ تیرے اختیار میں ہے۔

(د) مع کے معنی میں جیسے: ضم هذا إلى ذاكَ: اسے اس کے ساتھ ملالو۔

إِلَيْك إِلَيْكم فعل بمعنی أُبْعُدْ یعنی دور ہوجا جیسے۔ إِلَيْك عَنّي مجھ سے دور ہوجا۔

۲۔ خذ کے معنی میں جیسے: إِلَيْكَ الكتاب: کتاب کو لے لو۔

۳۔ أُلَى: أُولٰى کے معنی میں الذی کی جمع کے طور پر: جیسے: نحن الأُلَى یعنی نحن الذين ہم وہ لوگ ہیں۔ العرب الأُلى یہ عرب۔ أُولٰى جمع قریب کے لئے اسم اشارہ کے طور پر بھی آتا ہے۔

○ الا ـُ الواً فی کو کرنے میں غفلت کرنا، کو کرنے میں ناکام رہنا، کو نہ کرنا، سے باز رہنا، احتراز کرنا، لايالو جهدا في اس کام میں ہرطرح کی کوشش کرے گا، وہ اس میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا، کو کرنے کے لئے زحمت اٹھاتا ہے۔ آلي حلف اٹھانا، قسم کھانا، آلی على نفسه اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ۔ ايلاء حلف، قسم۔

○ أَلُو ہلو (Hello)

○ أَلُومِنْيا الومينيوم ایلومینیم aluminium (ایک ہلکی سفید دھات)

○ إِلَى حَيْثُ: جس حد تک، جہاں تک، کی طرف، کی جانب، تلک، تاوقتیکہ، حتیٰ کہ، جب تک کہ، یہاں تک کہ، تا۔ إلى أن: تلک، تاوقتیکہ، حتیٰ کہ، جب تک کہ، یہاں تک کہ إلى آخره وغیرہ، على هذا القياس۔ إلى ذلك علاوہ، مزید برآں، علاوہ ازیں۔ إلى متى کب تک إلى اللقاء خدا حافظ، إلى الام۔ إلى كم کہاں تک، کتنی دور إلى متى کب تک۔ إليك عني مجھ سے دور ہوجا، چلتے بنو۔ إلى جانب ذلك علاوہ ازیں، مزید براں۔ هذا إلى مزید برآں۔ إلى غير ذلك اس کی مثل، و ما إليه اس کی مانند، وغیرہ وغیرہ، ومَنْ إليه (اليه) اس/ان جیسے دوسرے لوگ۔ إليك: (پڑھنے والے کو مخاطب کر کے) یہاں آپکے پاس ہے، یہاں ہے/ ہیں، ذیل میں ہے/ ہیں وإلى القارىء فیلی میں پڑھنے والا پائے گا جو...... اسلوب عبرانی إلى العربي عبرانی کا عربی کے قریب قریب اسلوب۔ لا إلى هذا ولا إلى ذلك نہ اس طرح نہ اس طرح، کسی بھی گروہ سے غیر متعلق۔ الامر إليك یہ آپ کا کام ہے، یہ کرنا آپ کا فرض ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔

○ آلاء (إِلْي جمع) فائدے، خدا کی رحمتیں

○ أَلْيَة و جمع أَلَيَات دنبہ یا مینڈے کی موٹی دم، پٹھا، سرین۔

○ إلياذة إليادة Iliad، رام کہانی

○ يام:

ام: حرفِ عطف، ہمزہ استفہام کے بعد برابری کے معنی دیتا ہے جیسے: أقريبٌ أم بعيد قریب ہے یا دور؟ کبھی بل کا معنی دیتا ہے، جیسے: هل يستوى الاعمى و البصير ام هل تستوى الظلمات و النور: کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے یا اس کی بجائے اندھیرے اور روشنی برابر ہیں۔

ام: أَمَّ ـُ أَمًّا و أَمَّمَ وتَأَمَّمَ و إِئْتَمَّ قصد کرنا، أَمَمْتُ إِمَامَةً الرجلَ میں نے آدمی کو اپنے آگے رکھا۔ الأمام آگے۔ امامك ہوشیار رہ

۲۔ أَمَّ ـُ کے دماغ کو صدمہ پہنچانا۔ أُمّ الرأس جھلی جس میں دماغ لپٹا ہوا ہو۔ الأمِيم و المأموم سر پر چوٹ کھایا ہوا۔

۳۔ أَمَّ ـُ إِمَامَةً و أَمًّا و إِمَامًا القومَ و بالقومِ قوم کا امام بننا۔ إِئْتَمَّ کی اقتداء و پیروی کرنا۔ إِسْتَأَمَّهُ: کو امام بنانا۔ الإمام (مذکر و مؤنث کے لئے) جمع أَئِمَّة و أَيِمَّة امام، وہ جس کی اقتداء کی جائے، پیشوا، رہنما، راستہ، معمار کا دھاگا جو کہ وہ سے وہ عمارت کی سیدھ قائم کرتا ہے۔ الإمامة: امامت پیشوائی۔ الأمم جمع أمم طریقہ۔

۴۔ أَمَّتْ ـُ أُمُومَةً ماں ہونا تَأَمَّمَ و اسْتَأَمَّ المرأةَ: عورت کو ماں بنانا الأم جمع أُمَّات و أُمَّهات، جننے والی (کہا جاتا ہے۔ امھات انسان کے لئے اور أُمَّات بہائم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لا أُمَّ لك کلمہ ذم کبھی مدح ہے اور استحسان کیلئے استعمال ہوتا ہے) کسی چیز کی اصل۔ أُمُّ القرى مکہ معظمہ۔ أُمُّ الطريق شارع عام۔ أُمُّ النجوم کہکشاں۔ ام الدماغ یعنی ام الراس۔ أُمُّ مثواك تمہارے گھر کی مالکن، بیوی۔ أُمُّ عِرْيَط بچھو۔ أُمُّ القِرْدان کنکھجورا۔ ام اربع و اربعين کنکھجورا۔ الأُمِّيَّة و الأُمُومَة: ماں ہونا، مادرانہ شفقت، ماں بننا، مادریت، مامتا۔

۵۔ الأُمِّي ان پڑھ۔ بے پڑھا لکھا۔ ناخواندہ۔ الأُمِّيَّة: ناخواندگی۔ مکافحة الأمية ناخواندگی کا انسداد۔

۶۔ أَمَّمَ نجی جائیدادوں، کمپنیوں اور پیداوار کے تمام ذرائع کو قوم کی ملکیت میں لینا، قومیانہ۔ الأمة جمع أُمَم جماعت، لوگوں کی نسل، وطن۔ ہم کہتے ہیں: هو من بني أمتي وہ میرا ہم وطن ہے۔ جمعية الأمم و الأمم المتحدة انجمن اقوام، اقوام متحدہ۔ التأميم قومیانہ Nationalizaion۔ شخصی املاک کو قومی بنانا۔ قانونا قومی قرار دینا، قومی ملکیت بنانے کا عمل۔

۷۔ الأُمَّة جمع الأُمَم قامت، قد و قامت

○ أَمَّ ـُ أَمًّا کسی جگہ جانا۔ کو چلے جانا۔ ـ إمامةً کی رہنمائی کرنا، اپنی مثال سے رہنمائی کرنا، کی امامت کرنا (نماز میں) یا کا امام ہونا۔ أُمُومَةً ماں ہونا یا بن جانا أَمَّمَ کو قومیانہ، قومی ملکیت قرار دینا، قومی ملکیت میں لینا۔ تَأَمَّمَ کسی جگہ جانا۔ ـ ٥: کو چلے جانا۔ إِئْتَمَّ کی مثال پر چلنا۔ جمع أُمَّهات اصل، سرچشمہ، منبع، بنیاد، (کسی کتاب کا) اولین ترجمہ، لب لباب، جوہر، روح، ست، جمع أُمَّهات (کتاب کا) سانچہ۔ ام الحوت شاخہ مچھلی، امّ الحسن بلبل، عندلیب، ہزار داستان۔ ام الخلول ایک قسم کی کھپرے دار (صدفی) مچھلی جو دریاؤں میں پائی جاتی ہے۔ أُمُّ الرأس کھوپڑی، دماغ۔ امّ درمان (خرطوم کے مقابل، وسطی سوڈان کا ایک شہر) ام درمان۔ ام اربع و اربعين ہزار پا، کنکھجورا۔ أُمُّ شملة دنیا، دنیوی خوشیاں بِأُمِّ العين بِأُمِّ عينه اپنی آنکھوں سے ام القرآن ام الكتاب قرآن مجید

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کی پہلی سورۃ۔ ام الکتاب کا اولین متن،
جس سے قرآنی وحی ماخوذ ہے۔قرآن مجید کے وہ حصے
جو بحث طلب نہیں۔
ام الوطن دارالحکومت،عروس البلاد۔ امہات
الحواد: سب سے زیادہ اہم واقعات امہات
الحروف: حروف کے سانچے۔ اُمّہات
المسائل: بنیادی مسائل، امہات الفضائل: بڑی
۲۔ نیکیاں۔ ج اُمَم قوم،لوگ،نسل،پود،نژاد۔
اُمّۃ محمد: مسلمان،محمدی امت۔ اُمّی: مادرانہ،
ماں کی سی مہربانی کا یا والا، مادرانہ شفقت کا مظہر۔
ناخواندہ،ان پڑھ،غیر تعلیم یافتہ۔جمع اُمّیون: اُمّیۃ:
جہالت،ناخواندگی۔ اُمَمی: بین الاقوامی۔
اُمومۃ: ماں ہونا،مامتا،ماں پن،ماں بننا، اَمام: کے
سامنے،کی موجودگی میں إلی الأمام: آگے کو،آگے کی
طرف،آگے بڑھتا ہوا۔آگے،سامنے۔ لم یکن
أمامہ إلا: اس کے پاس اس کے سوا کوئی دوسری
صورت نہ تھی کہ۔ وَقَفَ أمامہ: کی مخالفت کرنا،
مزاحمت کرنا،کو روکنا أمامی: آگے کا۔ نُقطۃ أمامیۃ:
فوجی چوکی،چوکی کی فوج۔ اِمام ج أئمّۃ: امام،پیش
امام،رہنما،آقا،شاقول کی ڈوری۔ إمامۃ:
پیش امامی، سرکردہ حیثیت۔پیش روی تامیم:
قومیانہ۔
○ أمۃ ج إماء و اَموات: کنیز،لونڈی۔
۲۔ أمّا: جہاں تک ...... کا تعلق ہے،لیکن تاہم،دوسری طرف،
مگر،کتنا ہی،کیسا ہی أمّا بعد: اب اپنے موضوع
۳۔ کی طرف آتے ہوئے۔
إمّا: إمّا ...... و إمّا، امّا ...... خواہ یہ ...... یا یہ؛
یا،یا تو ...... یا،خواہ،خواہ۔
اَما: حرف تنبیہ اور اس کے بعد اکثر قسم کھائی جاتی
ہے۔جیسے أما و اللہ حرف عرض: أما تنزل بنا:
آنیوالے کو یہ کہہ کر،"کیا آپ ہمارے ہاں قیام نہیں
فرمائیں گے"۔قیام کرنے کی پیش کش کی جاری ہے۔
۲۔ حرف تاکید کا حرف بمعنی لیکن: أمّا الذین آمنوا
فیعلمون انہ الحق لیکن جو لوگ ایمان لائے پس
وہ جانتے ہیں کہ وہ سچ ہے۔حرف تفصیل جیسے: أمّا
زیدٌ فرجل: لیکن زید نے تو فائدہ اٹھایا۔اس کے
جواب میں "فا" لانا ضروری ہے۔
۳۔ إمّا حرف تفصیل جیسے: إنا هدیناه السبیلَ إما
شاکرا واما کفورا: ہم نے انسان کو راستہ دکھلایا۔
اس کے بعد وہ شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرا بن کر جیئے۔
۲۔ شک و ابہام کے معنی ہیں: جیسے جاء إمّا زیدٌ وإما
عمرو: زید آیا ہے یا عمرو۔یعنی یہ معلوم نہیں کہ ان
دونوں میں سے کون آیا۔
۳۔ اباحت و تخییر کے معنی میں: جیسے تعلّمْ اما
الفقہ واما اللغۃ: فقہ سیکھ یا لغت: گویا کسی ایک کا
انتخاب کر کے سیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔
امبیر: الأمبیر (امپیئر، برقی رو کی اکائی
(ampere) جمع أمابیر۔
۲۔ الإمبریولوجیا (طب) جنینیات۔جنین کا علم
(embryology)
○ إمبراطور: شہنشاہ، إمبراطوري:
سامراج کا حامی،ملوکیت پسند إمبراطوریۃ:
شہنشاہی،سلطنت،قلمرو۔
○ إمبیق: بھبکا،قرنبیق۔
○ امت: أمَتَ ـِ أمْتًا و أمَّتَ: قیاس کرنا،اندازہ
لگانا،کا قصد کرنا۔ الأمْت ج إمات و أموت:
کمزوری،شک،خلا،اونچی جگہ۔
○ أمْتیز: ٹیڑھا پن،خمیدگی،کمزوری۔
امج: أمِجَ ـَ أمَجًا: گرم ہونا، پیاسا ہونا، صیف
أمِجٌ: گرم موسم گرما۔
امد: أمّد: مدت بیان کرنا الأمَد ج آماد: آمادیت، چیز
کی انتہاء،کہا جاتا ہے۔ طال علیہم الأمد: پر
مدت طویل ہوگئی۔ منذُ أمدٍ غیر بعید: تھوڑا عرصہ
پہلے۔
۲۔ أمِدَ ـَ أمَدًا علیہ: غضبناک ہونا۔ الأمَد ج آماد:
غصہ،غضب۔
۳۔ أمّدَ السقاء: مشک میں ایک قطرہ پانی کا نہ چھوڑنا۔
الآمِد و الآمِدۃ: بھری ہوئی یا بھری ہوئی کشتی۔
○ أمَد ج آماد: خاتمہ،اختتام،آخری اڈا یا جگہ یا
مقام یا مستقر۔ انتہا،عرصہ، وقت، وقت کا امتداد یا
پھیلاؤ،مدت،وقفہ،فاصلہ،دوری،بعد مسافت مُنذُ
أمدٍ بعید: طویل عرصہ کیلئے یا پہلے۔ قصیر الأمد:
تھوڑے وقت کا،تھوڑی مدت کا،تھوڑے دوران کا،
چندروزہ،ناپائیدار۔
امر: أمَرَ ـُ أمْرًا و آمِرۃً و إمارًا: کو کچھ بنانے کا یا
(کوئی کام کرنے وغیرہ کا) حکم دینا۔صفت: آمِر۔
صفت مفعولی: مأمور: کہا جاتا ہے: أمرہ الشیئ
وبالشیئ: کو کسی چیز کے بنانے کا حکم دینا۔ امرہ أن
یفعل و بأن یفعل: کو کرنے کا حکم دینا۔ آمَرَ
إیمارًا: کو کسی کام کے کرنے یا بنانے کا حکم دینا۔کو
کسی کام کے کرنے یا بنانے کا فرض سونپنا یا تفویض
کرنا۔ الأمْر ج أوامر: حکم فعل الأمر:
کام کو کرنے کا حکم دینے کا صیغہ۔ الأمّارۃ مؤنث
أمّار: بہت حکم دینے والا، برے کام پر اکسانے والا۔
۲۔ آمرہ مؤامرۃ فی أمرہ: کسی معاملہ میں مشورہ کرنا۔
تأمّر و إئتمر و إستأمرہ: سے مشورہ کرنا۔ الإئتمر
و إئتمروا بفلان: کسی کے قتل کی سازش کرنا۔ —
وتآمروا: آپس میں مشورہ کرنا۔ الإمّر: بہت مشورہ
یا رائے رکھنے والا۔کہا جاتا ہے۔ مالہ إمّر ولا
إمّرۃ: اس کے پاس کچھ نہیں۔ الأمیر ج أمراء:
جس سے مشورہ طلب کیا جائے۔ المؤتمر ج
مؤتمرات: کانفرنس۔ مؤتمر دولي: بین الاقوامی
کانفرنس۔ مؤتمر ثقافي: ثقافتی کانفرنس۔ مؤتمر
علمي: سائنس کانفرنس۔ مؤتمر سیاسي: سیاسی
کانفرنس۔
۳۔ أمِرَ ـَ أمَرًا و أمُرَ ـُ إمْرَۃً و إمارۃ: (حاکم)
ہونا سردار ہونا۔ ـ علیہ: والی ہونا أمّرہ: کو امارت
کا حاکم،جج یا حکم مقرر کرنا۔ تأمّر علیہ: تسلط پانا،
خود کو کسی کا جج بنانا۔
إئتمر الأمر و بہ: کی فرمانبرداری کرنا،حکم بجالانا۔
الأمیر ج أمراء: حاکم،سردار قوم،وہ شخص جو کسی قوم
کا والی ہو مگر شریف الاصل نہ ہو۔وہ شخص جو شریف
الاصل تو ہو مگر صاحب حکومت نہ ہو۔میر اسی معنی میں
ہے عامی زبان میں ہمزہ (أ) محذوف ہوتا ہے۔
امیر المؤمنین: حضرت عمر بن الخطاب اور ان کے
بعد آنے والے خلیفے اس لقب سے ملقب ہوئے۔
امیر البحر: ایڈمرل۔ امیر الألف: یار جنٹ
کا سربراہ کرنل۔ الامیرال: ایڈمرل (Admiral)
بحری جنگی جہازوں کا قائد (بمعنی امیر البحر)
الأمیري: امیر کا،امیر سے متعلق۔ المال
الامیري: خراجی زمینوں سے حاصل کردہ مال۔
الطابع الامیري: ٹکٹ،اسٹامپ جو رسیدوں اور
دستاویزات وغیرہ پر چسپاں کیا جاتا ہے اور ایک قسم کا
ٹیکس ہے۔ الإمارۃ: امیر کا منصب،امیر کے زیر تسلط
چھوٹی ریاست۔
المؤتمر: خود رائے۔
۴۔ أمِرَ ـَ أمَرًا و أمَرۃً الشيء: بہت ہونا،کثرت سے
ہونا۔ ـ الرجل: بہت مویشیوں کا مالک ہونا۔صفت
أمِر۔ آمرہ ایمارًا اللّٰہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کے مال یا
اس کی نسل کو بڑھانا۔
۵۔ الإمر: عجیب،خلاف عقل و شرع کا کام لقد جئت
شیئا إمرا: تو نے خلاف عقل و شرع کام کیا ہے۔
الأمر ج أمور: کام۔معاملہ (جیسے: ما امر فلان:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اس کا کیا معاملہ ہے) چیز۔ (جیسے لِأمرٍ مَا کَانَ کَذَا: کس چیز کے سبب ایسا ہوا)۔ اُولُو الأمر: حکام، علماء، جمع الأُمُور۔ الأَمَرَة: بیابان میں پتھر کا چھوٹا سا نشان، ٹیلہ۔ جمع أَمَر۔ الأَمَارَة: علامت۔ جمع أَمَارَات۔ الأَمِير: پڑوسی۔ جمع أُمَرَاء: انسان۔ التَّأمُرِيّ و التُّؤمُرِيّ و التَّأمُورِيّ و التُّؤمُرِي: برتن، دل، بادشاہ کا وزیر۔ التَّأمُور: راہب کا صومعہ، شیر کی کچھار۔ التَّأمُورَة

۲۔ تَأمْرَكَ الرجل: آدمی کا امیری (امریکی) ہونا۔ امریکی طور طریقے اور عادات اپنانا صفت: مُتَأَمْرِك۔

أَمَرَ أَمْرًا و إمَارًا: کو کچھ کرنے کا حکم دینا، ہدایت دینا، کے کچھ سپرد کرنا، کو کوئی کام (کرنا) تفویض کرنا۔

أَمِرَ و أَمُرَ إمَارَةً: امیر (حاکم) ہو جانا۔ أَمَّرَ: کو پر حاکم بنانا، کو پر اختیار دینا۔ أَمَّرَهُ علي: سے مشورہ کرنا، سے مشورہ طلب کرنا۔ أَمِرَ: اقتدار میں آنا، اپنے آپ کو بطور آقا نصب کرنا۔ تَأَمَّرَ: حاکم کی طرح پیش آنا، حاکم جیسا رویہ اختیار کرنا، آمرانہ وضع و انداز اختیار کرنا، تحکم پسند ہونا، زبردستی کرنا، حکم چلانا، ظلم سے حکومت کرنا۔

تَآمَرَ: آپس میں مشورہ کرنا، باہم غور کرنا، سوچنا سمجھنا۔ ۔۔۔ علي: کے خلاف سازش کرنا۔ اِئْتَمَرَ ب: کے بارے میں غور کرنا، مشورہ لینا۔ ۔۔۔ علي: کے خلاف سازش کرنا۔ اِئْتَمَرَ بِأَمْرِهِ: کے احکام کی تعمیل کرنا۔

أَمْر: جمع أَوَامِر: حکم، ہدایت۔ قانون، ہنگامی قانون، خاص قانون، فرمان، ڈگری، فیصلہ، طاقت، اقتدار، اختیار، صیغہ امر (گرامر)۔ أَمْرٌ عالٍ: شاہی فرمان اور قانون۔ قانونی طاقت کا حامل حکم۔ الأَوَامِر والنَّوَاهِي: حکم و ممانعت۔ الأَمْر و النَّهْي: اقتدار اعلیٰ، کامل اختیار، اعلیٰ اتھارٹی۔ أَمْر تَورِيد: ڈلیوری کا حکم۔ تحتَ أَمْرِكَ: آپ کی تحویل یا آپ کی خدمت میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے سپرد۔

أَمْر جمع أُمُور: معاملہ، واقعہ، بات، کام، قضیہ، کاروبار، امور، واسطہ۔ أَمْرٌ واقِع: حقیقت۔ أَمْرٌ مَعْرُوف: جس کا قریب قریب ہر شخص کو علم ہو (comnon knowledge)۔

فِي أَوَّلِ الأَمْر: شروع میں، سب سے پہلے۔ لِأَمْرٍ مَا: کسی نہ کسی وجہ سے۔ أَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ: کیا ایسا نہیں ہے؟ أَمَّا و الأَمْرُ كَذَلِكَ: ایسی صورت میں، ہو گا یوں، بلاشبہ۔ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ: کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ بات کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ هُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: اس کے پاس دو امکانات ہیں یا دو (متبادل) صورتیں ہیں۔ الأَمْرُ الَّذِي: جو۔ قُضِيَ أَمْرُهُ: وہ تباہ ہو گیا، اس کے لئے مزید مواقع نہیں رہے۔ إمَرَة:

ۂ۔ سادہ لوح، بے وقوف۔ إِمْرَة: طاقت، اختیار، اقتدار، حکم، کمان، اثر، رسوخ۔ تحتَ إِمْرَتِهِ: اس کے زیر کمان۔ أَمَارَة جمع أَمَارَات و أَمَائِر: نشان، علامت، نشانی، دلیل، خصوصیت، وصف۔

إِمَارَة: امیر (حاکم) کا منصب یا مقام، نوابی یا شاہانہ وضع یا رویہ یا اخلاق و عادات۔ ریاست، امارت (emirate)، اقتدار۔ إِمَارَةُ البحر: نظارت بحریہ، امیر البحر کا منصب یا دائرہ اختیار۔ اماراتُ ساحلِ عُمان: معاہداتی عمان (Oman)، امیر جمع أُمَرَاء: کمانڈر، شہزادہ، امیر، حاکم خاندان کے شہزادوں کا لقب۔ امیر الآي: رجمنٹ کمانڈر (کرنل)، کیپٹن (بحریہ کا ایک رتبہ)۔ امیر الأُمَرَاء: میجر جنرل۔ امیر البحار: امیر البحر۔ کبیر امراء البحار: فلیٹ ایڈمرل (Fleet Admiral)۔ امیر البحار: ایڈمرل۔ امیر البحر الاکبر یا امیر البحار الاعظم: فلیٹ ایڈمرل (Fleet admiral)۔ امیر اللِّوَاء: بریگیڈئر، (brigadier)۔ امیر لِوَاءِ العَسَّة: بے کے محل کے محافظوں کا سالار۔ امیر المؤمنین: خلیفہ، مسلمانوں کا سالار۔ أَمِيرَة جمع أَمِيرَات۔ شہزادی۔ أَمِيرِيّ و (مِيرِي): حکومتی، ریاستی، عوامی۔ ارض امیری: حکومت کی زمین۔ المطبعة الأميرية: گورنمنٹ پریس۔ أَمَّار ب: (کچھ کرنے کے لئے) ہمیشہ زور دینے والا، مطالبہ کرنیوالا، ابھارنے والا، اکسانے والا، شہ دینے والا۔ النفس الأمّارة بالسوء: (انسان کی پست تر) ذات (یا نفس) جو برائی پر اکساتی ہے۔ تَأمُور: روح، ذہن، ولولہ، غور و خوض، سوچ بچار۔ غور و فکر۔ مُؤَامَرَة جمع مُؤَامَرَات: صلاح، مشورہ، مشاورت، سازش، تَأَمُّر: تحکمانہ انداز، تحکمانہ رویہ یا سبھاؤ، وطور طریقہ، اپنی مرضی کے تابع کرنے والی عادات۔ تَآمُر: باہمی مشورہ، مشاورت، غور و فکر، غور و خوض، سوچ بچار، سازش۔ اِئْتِمَار: غور و خوض، غور و فکر، سوچ و بچار، مشاورت، سازش۔ اِسْتِمَارَة (عموماً اِستِمارہ لکھا جاتا ہے) فارم (Form) (چھپا ہوا کاغذ جس کی خانہ پری کی جاتی ہے)۔ آمِر: کمانڈر۔ سالار۔ آقا، حکم دینے والا، خریدنے والا گاہک۔ الآمرُ النَّاهِي: مطلق آقا یا مالک جس کے غیر محدود اختیارات ہوں۔ مَأمُور: مختار، کمشنر، سول آفیسر، اہلکار (خصوصاً عاملہ و نافذہ حیثیت سے)، مرکز یا قسم کا سربراہ۔ مأمور البولیس: پولیس کمشنر۔ مامور لِلتفلیسة: دیوالیہ کا متولی۔ مأمُورِيَّة

مفوضہ، مشن، کمشن، کمشنر کا دفتر، حکومتی ایجنسی کی انتظامیہ شاخ۔ مأمُورِيَّة قضائية: عدالتی کمشن۔ مُتَآمِرُون: سازشی لوگ، سازشی لوگ، مُؤتَمِرُون: کانگریس، کنونشن یا کانفرنس کے ارکان۔ مُؤتَمَر جمع مُؤتَمَرَات: کانفرنس، کنونشن، کانگرس، مؤتمر الصلح: صلح کانفرنس۔ تَأَمْرَكَ: امریکی ہو جانا، امریکی طرز حیات اختیار کرنا، امریکیوں کی نقل کرنا۔ تَأَمُّرُك: امریکی ہونا۔

أَمَرِلِس: نرگس کی قسم کا ایک پھول۔

أَمْرِيكَا (گزشتہ زمانہ میں امریقا): امریکہ (ایک ملک) امریکا الجنوبية: جنوبی امریکہ۔ امریکی: امریکی، امریکی باشندہ جمع امریکیون۔ الأمريكان: امریکن لوگ۔ أَمْرِيكَانِي: امریکی جمع امریکانیون)

امس: أَمْسِ (اعرابی حالت میں): گزشتہ کل۔ الأَمْس جمع آمُس و أُمُوس و آمَاس: گزشتہ دنوں میں سے ایک دن نسبت کیلئے: إِمْسِيّ (گزشتہ) کل کا (جو خلاف قیاس ہے)۔

أَمْسُ (حالت نصبی میں امسًا) (گزشتہ) کل۔ قریب ترین ماضی، حالیہ وقت۔ أَمْسِ: (گزشتہ) کل، حال ہی میں، ابھی کچھ عرصہ قبل۔ بِالأَمْس: (گزشتہ) کل، کچھ عرصہ قبل، امس الاول: دو دن قبل، پرسوں۔ أُمْسِيَة جمع أُمْسِيَات و أَمَاسِي: شام۔

أَمُسْتَرْدَام: ایک شہر کا نام۔

أَمْشِير: (قدیم مصری جنتری کے مطابق) چھٹا مہینہ۔

امع: تَأَمَّعَ و اِسْتَأْمَعَ: ہر ایک کی رائے کا تابع بننا۔ الإِمَّع و الإِمَّعَة: ہر ایک کی رائے کا تابع۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ إِمَّعٌ و إِمَّعَةٌ جمع إِمَّعُون۔ إِمَّع کی اصل إِنِّي مَعَكَ (میں تیرے ساتھ ہوں) ہے۔

إِمَّع و إِمَّعَة: بے کردار شخص، ابن الوقت، مصلحت بین، زمانہ ساز۔

امل: أَمَلَ أَمْلًا و أَمَّلَ تَأْمِيلًا ہ: کی امید کرنا۔ الأَمَل و الأَمَل جمع آمال: امید۔ الإِمْلَة: امید۔ الأَمَلَة: امدادی لوگ (واحد آمِل) المَأْمَل: امید، جس کی امید رکھی جائے۔

۲۔ تَأَمَّلَ الأمرَ و فيه: کسی معاملہ پر دیر تک سوچ و بچار کرنا، کہا جاتا ہے۔ تَأَمَّلَ جمال الطبيعة: اس نے قدرت کے حسن پر غور و فکر کیا۔ تَأَمَّلَ في حقيقة او مسألةٍ: اس نے کسی حقیقت یا مسئلہ پر سوچ و بچار کی۔ التَّأَمُّل الباطني: مراقبہ، دھیان، محو خیال۔ الأَمِيل (ك): جذر (ریاضی)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

○ اَمَلَ ـُ اَمَلاً ہ / ب کی امید ہونا، کی امید ذہن میں رکھنا۔ اَمَّلَ امید رکھنا۔ ـ ہ من کی سے توقع کرنا، امید کرنا۔ ـ ہ میں امیدیں دلانا، کے لئے امیدیں دلانا، کو امید یا توقع کرنے کی وجہ دینا اَمَّلَہُ خیراً: کو بہتری کی امید دلانا۔ تَاَمَّلَ ہ / فی کی طرف توجہ سے دیکھنا، کو غور سے دیکھنا۔ ـــ مجو خیال ہونا مراقبہ میں ہونا۔ ـ ہ /فی پر غور کرنا۔ پر غور وفکر کرنا۔ اَمَل جمع آمَال (فی/ب) امید، توقع۔ اَمَل کاذِبٌ: مغالطہ آمیز امید۔ مَاْمَل جمع مَآمِل امید۔ تَأَمّل جمع تَأَمُّلات: سوچ غور، غور وفکر، دھیان، تصور، استغراق، مراقبہ۔ تأمُّلات مراقبے۔

آمِل و مُؤَمِّل پر امید۔ مَامُول جس کی امید کی جائے۔ متوقع مُتَأَمِّل غور وفکر والا، مستغرق، دھیان میں محو۔ متفکر، خیال میں ڈوبا ہوا، پر ازغور فکر، تفکر پسند، فکرمند، دلگیر، اداس۔

امن ۱۔ أَمِنَ ـَ اَمْنًا و اَمَنًا و اَمَانًا و اَمَنَةً مطمئن ہونا صفت اَمِن و أَمِین و آمِن۔ ـ الأسدَ ومنہ شیر سے محفوظ رہنا اور بچنا۔ اِسْتَأْمَنَہ: سے امن چاہنا، امن طلب کرنا۔ الأمَان: اطمینان، حفاظت، سلامتی، بچاؤ، وعدہ، نگرانی۔ الأمَـنَة اطمینان، سکون قلب۔ الأمُون: وہ سواری جس کے لغزش قدم کا خدشہ نہ ہو۔ المَأمَن: جائے امن۔

۲۔ اَمَنَ ـِ أَمْنًا ہ پر اعتماد و بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا صفت: آمِن۔ آمَنَ إِيمانًا بہ: کو قابل وثوق سمجھنا، پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، پر ایمان لانا۔ ـــ لہ کا تابعدار و مطیع ہونا۔ الأمَانَة جمع أمانات اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی ذمہ داری۔ الأمَـنَة: ہر ایک پر اعتماد و بھروسہ کرنے والا۔ الأمَـنَة قابل اعتماد، قابل بھروسہ۔ الأمِين جمع أُمَنَا: امانت دار، کسی کے پاس امانت رکھنے والا۔ کسی کی امانت رکھنے والا۔ المَأمُون معتمد علیہ، معتبر۔ المُؤمِن: ماننے والا، تصدیق کرنیوالا، خدا تعالیٰ کے احکام پر یقین رکھنے والا۔ الإيمَان: تصدیق کرنا، ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی وحی پر پختہ ایمان۔

۳۔ أَمُنَ ـُ أَمَانَةً امین ہونا۔ صفت: امین جمع اُمَنَاء۔ إئْتَمَنَہُ و إسْتَأمَنَہُ: کو امین سمجھنا۔ الأمَانَة جمع أمَانات و الأمَنَة امانت (خیانت کی ضد)۔

۴۔ أَمَنَ ـِ أَمْنًا ہ پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، أمَّنَہُ: کو امن واطمینان میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے أَمَّنَ علی مالہ عند فلانٍ تأمینًا اس نے اپنا مال فلاں کی سپرداری میں دیا۔ ـــ وإئْتَمَنَ فلانًا علی کذا کو کسی چیز پر امین بنانا۔ إسْتَأمَنَہُ علی کذا کو کسی چیز پر امین بنانا۔ الأمَانة جمع امانات: جو چیز کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائے۔

۵۔ أَمَّنَ: آمین کہنا۔ ـ آمین و امین اسم فعل ہے۔ اس کا معنی استجب یا فلیکن کذلك ہے: یعنی قبول کریا ایسا ہی ہو

۶۔ امانیت (ن): کھمبیوں کی ایک قسم۔

۷۔ الأمْنِيَّة: دیکھو مَنَی

○ أَمُن ـُ اَمَانَةً: قابل اعتماد ہونا۔ اَمِنَ ـَ اَمْنًا و اَمَانًا ہ / من: سے محفوظ ہونا، سے محفوظ محسوس کرنا۔ أَمَّـنَ ہ: کو پھر یقین یا اطمینان دلانا، کی پھرڈھارس بندھانا۔ کو پریشانی سے روکنا، ـ علی / ہ کا اطمینان کرلینا، کو یقینی صورت دینا، کی حفاظت کرنا، کے حفاظتی اقدامات کرنا، کی ضمانت دینا، کی ذمہ داری لینا، کا جواز پیش کرنا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا۔ ـ ضدّ الحریق: آگ کیخلاف بیمہ کرانا۔ ـ ہ علی: کے کوئی چیز سپرد کرنا۔ ـ علی: پر آمین کہنا۔ آمَنَ ب: پر ایمان لانا۔ إئْتَمَنَ ہ: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، پر یقین رکھنا۔ ـ ہ علی: کے سپرد کوئی چیز کرنا۔ إسْتَأمَنَ بمعنی إئتَمَنَ نیز اسْتَأمَنَ ہ: سے حفاظت کے لئے کہنا، سے حفاظت کے وعدہ کے لئے کہنا۔ سے نقصان وغیرہ سے حفاظت کے لئے کہنا۔ امن امن، سلامتی، حفاظت۔ الامن العام: امن عامہ۔ رجال الامن: پولیس۔ امان: حفاظت، سلامتی، امان، پناہ، محفوظ جگہ، بخشش، امان جان بخشی، جو دشمن ہتھیار ڈال دے اس کی معافی، حفاظت کرنا، حفاظت کی یقین دہانی، نقصان کی ضمانت، سزا سے معافی فی أمان اللّٰہ: خدا حافظ، اللہ تعالیٰ کے حفظ وامان میں۔ اَمِين جمع اُمَنَاء: قابل اعتبار، قابل اعتماد، بھروسہ کے لائق، وفادار، باوفا، ایماندار، راست باز، محفوظ، بااختیار نمائندہ یا ایجنٹ، امانت دار، ـ علی: کا ذمہ دار، کفیل، ضامن، سربراہ، سپرنٹنڈنٹ، مہتمم، محافظ، منتظم، سرپرست، والی، نگران، حاجب، مدار المہام، دیوان، بخشی، افسر اعلیٰ، ہم پیشہ لوگوں کی انجمن کا صدر۔ کوارٹر ماسٹر جنرل، الامیـــن الاول: لارڈ چیمبرلین (Lord chamberlain)۔ کبیر الأمناء چیف ماسٹر آف سریمنیز Chief Master of Ceremonies۔ امینُ المَخزَن: گودام کا سپرنٹنڈنٹ، سٹاک کلرک Stock Clerk۔ امیـن سِرِّ الدّولَة ریاست کا مستقل سیکرٹری۔ امیـن الصـنـدوق و امیـن المال: خزانچی، خازن، معتمد مال امیـن العاصمة: میئر (Mayor) امیـن عام سیکرٹری جنرل۔ امین المکتب: انگلستان کی بحریہ کا لفٹیننٹ۔ (1939ء میں) اَمَانَة: قابل اعتماد ہونا۔ وفاداری، ایمانداری، اعتماد، بھروسہ، نیک نیتی، ٹرسٹ میں رکھی ہوئی امانت، تولیت، جمع اَمانات: ٹرسٹ میں جمع کرائی ہوئی چیز، امانت، سیکرٹریٹ، امانة الصُّندوق: محکمہ خزانہ امانة عامة: سیکرٹریٹ جنرل۔ مخـزن الأمـانـات مسافروں کے سامان چیک کرنے کا کمرہ۔ مَـأمـن حفاظت کی جگہ، محفوظ جگہ۔ تـامین حفاظت، ضمانت، بیمہ، تـامیـن اجـتـمـاعی: محتاجی اور بیروزگاری سے رستگاری تـامـیـنٌ ضـدَّ الـحـریق: آگ (لگنے کے خلاف) بیمہ۔ تـامیـن علی الحیاة: زندگی کا بیمہ۔ ایمان: ایمان، یقین، عقیدہ، اعتقاد، مُؤمَّن علیہ بیمہ شدہ۔ مُؤتَمَنُ علی: سپرد کردہ۔ مُؤتَمَن راز دار۔ ضبط کرنے والا، عدالتی تحویل میں رکھنے والا۔

○ أُمْنِيبُوس: اومنی بس، بس bus

امه ۱۔ اَمِهَ ـَ أَمْهًا و أَمَهًا الشَّیءَ: کو بھول جانا، فراموش کردینا۔

۲۔ أَمَهَ ـُ أُمْهًا الیه فی امرٍ: سے کسی امر میں عہد و پیمان کرنا۔

۳۔ تَأَمَّهَ المرأة: عورت کو ماں بنانا۔ الأمَّهَة: ماں۔

○ اَمَوِی: لونڈی، باندی، کنیز کا یا جیسا

○ اُمَوِی: اُموی، قبیلہ بنو امیہ کا فرد۔

اما: أَمَا ـُ وَأَمِیَ ـَ وأَمِی ـِ أُمُوَّةً ت الجاریةُ: لڑکی کا لونڈی، باندی یا کنیز بننا۔ أَمَّـی الجـاریةَ: لڑکی کو لونڈی، باندی یا کنیز بنانا۔ تَـأَمَّـی و اسْـتَـأمَـی الجـاریةَ: لڑکی کو لونڈی باندی یا کنیز بنالینا الأمَة جمع إمَـاء و اَمَـوات و آم: خادمہ، مملوکہ لونڈی، نسبت: اَمَوِیّ تصغیر اُمَیَّة۔

۲۔ أَمَا یَأمُو إماءً السّنّورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

۳۔ اُمَیَّة قریش کا ایک قبیلہ۔ نسبت کے لئے اُمَـوِیّ بعض اوقات اَمَوِیّ بھی کہہ دیتے ہیں۔

○ امیبا: امیبا، پانی کا ابتدائی ذی روح، پانی کا ایسا کیڑا جو خوردبین سے دیکھا جاسکتا ہے۔ (amoebae)

○ امیرال امیر البحر، ایڈمرل (Admiral)۔

○ اَمیرکا و اَمیرکة: امریکہ (ایک ملک، ایک براعظم)

○ اَمیرالیة نظامت بحری۔ امیر البحر کا دفتر۔ دفتر بحریہ۔ محکمہ بحریہ۔

ان ۱۔ أن حرف مصدری، مضارع کو نصب دیتا ہے۔ جیسے: أن تـصـومُوا خیرٌ لکم بمعنی صیامکم خیر لکم: تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے۔

۲۔ أنَّ: کا مخفف جیسے: علـم ان ستقع حرب: اس

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نے جان لیا کہ جنگ ہوگی۔
۳۔ مفسّرہ جیسے فاوحینا الیہ اَنِ اصنع الفلك: پس ہم نے اسے وحی کہ کشتی بنا۔
۴۔ کبھی تاکید کیلئے زائد ہوتا ہے جیسے: ولما أن جاء: جب وہ آیا۔

اِن

(ب) حرف شرط، دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ تَضرِبْ تُضرَبْ اگر تو مارے گا تو تجھے مار پڑے گی۔
۲۔ حرف نفی ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک "لَیسَ" کی طرح عمل کرتا ہے۔ جیسے: إن أحدٌ خیرًا من أحَدٍ الابالعافیة: عافیت کے بغیر کوئی کسی سے بہتر نہیں۔
۳۔ کبھی جملہ فعلیہ پر آتا ہے جیسے: اِنْ أدری أقریبٌ أم بعیدٌ ما توعَدُون: میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ یعنی لستُ أدرِی۔
۴۔ کلِ مخفف اور زائد ہوتا ہے۔ مَا اِنْ زیدٌ قائم: زید کھڑا نہیں۔
۵۔ حرفِ تو کید اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جیسے: إنّ زیدا قائمٌ: یقیناً زید کھڑا ہے۔
۲۔ حرف جواب جیسے: لعن اللّٰهُ ناقةً حملتنی إلیك: اللہ اس اونٹنی پر لعنت کرے جو مجھے تیرے در پر لے آئی۔ اور جواب میں کہا جائے: إنّ وراکبها: ہاں اور اس کے سوار پر بھی۔
۶۔ اَنّ حرف تاکید اور مصدر، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جیسے: بلغنی أنّ زیدا قائمٌ بلغنی قیامُهُ: مجھے زید کے قیام کی خبر پہنچی۔
○ اگر۔ اِن اگر۔ واِنْ اگرچہ، باوجودیکہ، اس کے برعکس، ہر چیز، خواہ، ہی کیوں نہ ہو۔ اِنْ ... (ہو) یا یہ (ہو)۔ اِلّا ... اِلّا اِلّا یہ کہ، جب تک نہ، اِنْ هُوَ اِلّا، ان هی اِلّا نہیں مگر، یہ سے زیادہ نہیں۔ لَٰکِنَّ: بِمَا اَنَّہ چونکہ وہ، چونکہ وہ۔ عَلَی اَنَّ ہرگاہ، تاہم، لیکن، مگر، پھر بھی، تاہم۔ وذلك اَنْ یعنی، دوسرے لفظوں میں، بالاصل، واقعی، حقیقت میں۔ فی الحقیقت اِنَّمَا لیکن، لیکن تب، تاہم، بلکہ، برعکس، برخلاف، قدرے، کسی قدر، بہتر ہے کہ، اس کے برعکس۔
انّ: أنَّ ـِ أنینًا و أنًا و أنانًا و تأنانًا دکھ سے آہ آہ کرنا، کراہنا۔ الأنین دردناک آواز، کراہ، کراہنا۔ انین الاطفال بچوں کی کراہ، انین الجیاع: بھوکوں کی کراہ۔ الآنَّان و الأنَّان و الأنَّانَة کراہنے والا۔ الأنّة و الأنَّاتُ الأنین۔
۲۔ انَّنَ و تَأنَّنَ منانا۔
○ جمع أنَّة انّا کراہ۔ انّات و آهات ہیں، لمبی دردناک چیخیں، اور آہ وزاریاں نوحے۔
انا: انا متکلم اور متکلمہ کی ضمیر رفع منفصل بمعنی میں (ایک مذکر یا مونث) الأنانة (میں) کہنا۔ الأنانی: خود پسند، خود غرض، لیس لِلأنانی صاحب خود پسند کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ الأنانیة خودی، خود پسندی، خود ستائی، تکبر، اپنی ذات سے شدید محبت اور دوسروں کے متعلق کچھ نہ سوچنا۔ گھمنڈ، خود پرستی، خود غرضی۔
۲۔ اَناناس (اناناس) (ایک پھل)
○ انانی خود غرضانہ۔ خود ستیانہ، خود پسندانہ، خود غرض، خود مطلب، نفس پرور، نفس پرست۔ انانیة خود غرضیت، خود غرضی، خود ستائی، خودی کا اثبات، انانیت۔
○ الأناضول اناطولیہ Anatolia
انب: أنَّبَهُ ڈانٹنا، جھڑکنا، ملامت کرنا۔
۲۔ الأَنبَج (آم) کا درخت۔ الأنبَجة (مانجا بھی کہلاتا ہے)
۳۔ الإنبِیق جمع انابیق (عرق) کشید کرنے کا آلہ۔
○ انَّبَ کو ملامت کرنا، پر الزام لگانا، کو سرزنش کرنا، جھڑکنا۔ تأنیب ڈانٹ، اظہار ناراضگی، سرزنش، چشم نمائی، زجر و توبیخ۔ الزام۔
○ (بتلفظ انبا): ایک کلیسائی اونچا لقب قدیم مصر کے مسیحوں کے نسل کے گرجا کا جو بڑے لاٹ پادریوں، اسقفوں، بزرگوں اور ولیوں کے ناموں سے پہلے بولا جاتا تھا۔
○ انبار جمع انابر و انابیر بڑی دکان، گودام، سٹور (روم)۔
○ اُنباشی (ایک فوجی رتبہ) نائیک، وکیل انباشی: درجہ اول کا فوجی سپاہی۔
○ انبوب و انبوبة جمع انابیب (نب) اِنبیق (نبکا)، قرنبیق
انت: أنتَ (تو ایک مذکر) أنتِ (تو ایک مونث) جمع أنتُمْ و أنتُنَّ مخاطب اور مخاطبہ کے لئے ضمیر رفع منفصل۔
۲۔ الأنتروبولوجیا علم انسان، بشریات، انسان کا فعلیاتی اور نفسیاتی علم (anthropology)
۳۔ انتولوجیا شعری، نثری یا موسیقی کے منتخب حصوں کا مجموعہ (بیاض اشعار، کلام منتخب) گلدستہ نظم، ادبی کشکول (anthology)
۴۔ الأنتِموان چھاپہ خانہ کے حروف ڈھالنے میں استعمال ہونے والا سفید مادہ۔
○ أنتَ (مذکر) أنتِ (مونث): تو جمع أنتُمْ (مذکر) أنتُنَّ (مونث) أنتُما دونوں۔ أنتذا یہ تو ہے!
○ أنتِیکخانة عجائب گھر، عجائب خانہ نوادرات کی نمائش کی جگہ۔
أنتیکة جمع انتیکات قدیم، پرانی وضع کا۔ دقیانوسی، جس کا رواج نہ رہا ہو۔
○ انتیمون اِثمد (Antimony)
انث: أنُثَ ـُ أنثا الحدید لوہے کا کچا و نرم ہونا صفت: أنِیث۔ أنِثَ کے لئے نرم ہونا، بردبار ہونا، متحمل ہونا۔ تأنّثَ نرم ہونا، جھکنا، تہہ ہونا۔ ــ لَهُ کے لئے نرم ہونا، ڈھیلا ہونا أنِیثٌ نرم، ڈھیلا۔ سیفٌ أنِیثٌ کند تلوار مکانٌ أنِیثٌ جگہ جہاں سبزہ جلد اگ پڑے۔
۲۔ أنَّثَهُ مونث بنانا، کو مونث شمار کرنا، مخنث بنانا۔ آنَثَت إینَاثًا المرأة عورت کا لڑکی جننا۔ صفت مُؤنِث۔ تأنَّثَ مونث ہونا، مونث ہونا۔ ــ الرجلُ: زنانہ ہونا۔ الأُنثَی جمع إناث و أناثَی و جج اُنُث: مادہ (نر کے مقابل) المُؤنَّث مونث (مذکر کے مقابل)، زنانہ مرد۔ المِئناث لڑکیاں جننے والی عورت مرد جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں۔ اس کے مقابلہ مِذکار لڑکے جننے والی) ہے۔
○ أنُثَ ـُ أنوثة مونث ہونا یا ہو جانا، نسوانی ہونا، زنانہ ہونا، نامردوں کا سا ہونا۔ أنَّثَ مخنث بنانا، نامرد بنانا، کمزور اور بزدل بنانا، زنانہ بنانا، زن صفت بنانا، کسی لفظ کو مونث بنانا۔ تَأنّثَ مخنث ہونا۔ (لفظ کا) مونث ہونا الجمع إنَاث و أنَاثَی مونث، زن، عورت، لگائی، استری، مادہ، الأُنثَیان خصیے (testicles) أنثَوِیّ زنانہ، عورتوں کا سا، نسوانی صفت کا، عورتوں کا، زن صفت، أنُوثة زنانہ پن، نسائیت، نسوانیت، عورت پن، تأنیث مونث (گرامر)، زنانہ، نسوانی، نسیائی مُؤنَّث مونث (گرامر)۔
○ انثروبولوجیا انسانیات، بشریات (anthropology)
انج: الأنجَر جہاز کا لنگر (فارسی لفظ)
۲۔ الإنجیل جمع أناجیل مرقس لوقا اور یوحنا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر حضرت مسیح اور ان کی تعلیمات کے متعلق تحریریں۔ یہ یونانی لفظ ہے اور اس کا معنی خوشخبری ہے کیونکہ انجیل نجات کی خوشخبری پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کتاب

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کا نام ہے۔
○ اِنْجاص　ناخ، ناشپاتی۔
○ اِنْجلْتَرا　انگلستان England انجلیزی
انگریزی، انگریز الانجلیز　انگریز۔ انگلستان کے
باشندے۔
○ اِنجیلی　حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو قلمبند کرنے
والا انجیلی، انجیل کی تعلیمات کے متعلق، مبلغ، انجیل کو
شائع اور مشتہر کرنے والا الانجیلیة　انجیلی عقیدہ
مذہب، مسلک یا دین۔
○ الأَنْدَلُس　ہسپانیہ Spain (ملک کا نام)
○ اِنْدُونیسیا　انڈونیشیا Indonesia (ملک کا نام)۔
انس　اَنِسَ ـَ و اَنَسَ ـُ اُنْسًا و اَنَسَةً و اَنَسَ ـِ
اَنْسًا　مانوس ہونا آنَسَ یُؤْنِسُ تَأْنِیسًا و آنَسَ
یُونِسُ اِینَاسًا ہ　کو مانوس کرنا تَأَنَّسَ　مانوس
ہونا اَسْتَأْنَسَ　وحشت کا دور ہونا الاَنَسُ و
الأُنْسَة: اَنِسَت المُؤْنِسَات　ہتھیار۔
اَنِسَ ـَ و اَنَسَ ـُ و اَنَسَ ـِ بِه و اِلَیه　سے محبت کرنا،
دل لگانا آنَسَ یُوانِس مُؤَانَسَةً ہ　پر مہربانی کرنا،
سے محبت کرنا، کو تسلی دینا تَأَنَّسَ به:　سے مانوس ہونا
اِسْتَأْنَسَ بِه و اِلَیه:　سے مانوس ہونا الاَنَسُ　جمع
آنَاس:　وہ شخص جس سے تم کو انس ہو، بڑا گروہ۔
الآنِسَة　ج اَوَانِس:　پاکیزہ طبیعت والی لڑکی،
کنواری لڑکی الأَنُوس:　بہت انس کرنے والا۔
الأَنِیس:　انس کرنے والا، وہ شخص جس سے انس ہو۔
کہا جاتا ہے ما بالدار مِن أنِیس:　گھر میں کوئی نہیں
ہے۔
آنَسَ الشيْءَ:　کسی چیز کو دیکھنا اور جاننا آنَسَ یُونِس
اِینَاسًا ہ:　کو مانوس کرنا آنَسَ الصوتَ:　آواز کو سننا اور
محسوس کرنا آنَسَ الشيْءَ:　کسی چیز کو دیکھنا۔ اسی سے ہے:
آنَسَ من جانب الطور نارًا:　موسیٰ علیہ السلام نے
طور کی جانب آگ کو دیکھنا تَأَنَّسَ السبعُ:
درندے کا دور سے شکار کی آہٹ کو معلوم کر لینا۔
اِسْتَأْنَسَ له:　کی طرف کان لگانا اور دیکھنا اِنسانُ
العینِ:　آنکھ کی پتلی۔
تَأَنَّسَ:　انسان ہونا الاِنس　والاِنسيّ و اَنَسِيّ
ج اِنْس و اَنَاسِيّ:　آدمی۔ کہا جاتا ہے: اِنْسُكَ و
ابنُ اِنْسِكَ:　تمہارا دوست اور حلیف الاِنْسان　جمع
اَنَاسِي و اَنَاسِیَة و آنَاس:　انسان، آدمی خواہ مذکر ہو
یا مونث۔ نوع انسانی۔ ایک شعر میں اِنْسَانَة:　بھی آیا
ہے الاِنْسَانِیَّة:　انسان کی خصوصیات۔ اس کا اکثر
استعمال اخلاق ستودہ کے لئے آتا ہے جیسے:

جوانمردی، خوش اخلاقی۔
الاِنسان　ج اَنَاسِي و اَنَاسِیَة و آنَاس　غیر مزروعہ
زمین الأَنِیس (ح)　ایک آبی پرندہ جس کی آواز
گائے کی آواز سے مشابہ ہے۔
الأَنْسُولِین (ك):　شکر کی بیماری کے علاج کی ایک دواء۔
الأَنِیسُون (ن)　رومی سونف۔ عام لوگ اسے ینسون
کہتے ہیں (یونانی لفظ ہے)۔
اَنِسَ ـَ و اَنُسَ ـُ اُنْسًا:　ملنسار ہونا، دوستوں کا دوست
ہونا، دوست ہونا، دوستانہ ہونا، بامروت ہونا، یار باش
ہونا، محبت پسند ہونا، خوش اخلاق ہونا، خوش مزاج ہونا،
ہمدرد ہونا اَنِسَ به:　کی صحبت پسند کرنا، کے ساتھ ساتھ
ہونے کو پسند کرنا ـ ب / اِلَی:　کے ساتھ گہرے
دوستانہ تعلقات ہونا اِلَی　کا عادی ہونا ـ ہ من
فی:　میں کوئی وصف دیکھنا یا پانا یا سمجھ لینا ـ ہ فی:
میں کوئی چیز محسوس کرنا، پڑھ لینا، سمجھ لینا، پہچاننا، کا
احساس ہونا، کا سا محسوس کرنا، کا دور سے دیکھ کر اندازہ
لگانا اَنِسَ لِحدیثِه:　کی بات غور سے سننا پسند کرنا۔
اَنَّسَ:　آرام دینا، رام کرنا، پالتو بنانا آنَسَ ہ:　کے
ساتھ دوستانہ ہونا، خوش اخلاق ہونا، کا دل خوش کرنا، کا
جی بہلانا کی مہمان نوازی کرنا، کا دل بہلانا، کی تفریح
کا سامان بہم پہنچانا آنَسَ ہ:　کے ساتھ رہنا، کا دل
بہلانا، کا دل خوش کرنا، کو خوش کرنا، کو محظوظ کرنا، ہ:
کو دیکھ لینا، بھانپنا، دریافت کرنا، پہچان لینا، سمجھ لینا، کو
دور سے دیکھ کر اندازہ لگانا، کا احساس ہونا، کا سا محسوس
کرنا، کو پانا، دیکھنا آنَسَ فیه الکفایة:　اس نے
دیکھا کہ وہ ٹھیک طور پر اہل ہے، قابل، لائق یا موزوں
ہے تَأَنَّسَ:　مجسم (خدا کا بیٹا) ہو جانا تَأَنَّسَ:　انسان
ملنسار ہونا، یار باش ہونا، محبت پسند ہونا، دوستوں کا
دوست ہونا، ساتھی بننے کے لائق ہونا، گہرا یا جگری
دوست بن جانا، پالتو ہو جانا، رام ہو جانا ـ ہ:
دوستانہ ہونا، خوش اخلاق ہونا، پر مہربان ہونا ـ:
بامروت ہونا، عادی ہونا، خوگر ہونا، آرام سے بیٹھ
جانا اِلَی / ب:　سے واقف ہونا، بے تکلف ہونا، کا
عادی ہونا، سے آگاہ ہونا، مطلع ہونا ـ ب:　کے
بارے میں مطلع ہونا، کے متعلق معلومات جمع کرنا، کا
خیال کرنا، کو حساب میں رکھنا، کو عمل میں لانا ـ ل:　کی
بات غور سے سننا، (رائے) پر کان دھرنا، کی طرف توجہ
دینا اُنْس:　ملنساری، یار باشی، صحبت، گہری دوستی،
واقفیت، آشنائی، بے تکلفی، دوستانہ فضا کعب اُنسی:
ٹخنے کی ہڈی، گٹے کی اندرونی ہڈی اِنْس:　آدمی،
نوع انسان، انسانی نسل، بنی نوع بشر، آدم زاد، انسان

جس میں انسانیت ہو ناس و اُنَاس　لوگ،
نَاسُوت:　بنی نوع انسان، بنی آدم، اولاد آدم، انسان،
نسل انسانی مرد، بشریت، بشری فضائل ،ا نسانی
ہمدردی اِنْسِی:　لوگ، انسان اَنِیس:　قریبی، دلی،
جگری، گہرا، گہرا یا جگری دوست، دوستانہ، مہربان،
خوش اخلاق، خلیق، خندہ جبین، بامروت، خوش خلق،
شائستہ، مہذب، شریف، متواضع، باآداب اِنسان
آدمی، انسان اِنسانُ العین:　آنکھ کی پتلی اِنسانة
عورت اِنسانی:　انسانی، بشری، نرم دل، ہمدرد، شفیق،
مذہب انسانیت کا پیرو، بشر دوست، غریب نواز، اپنے
خرچ پر معاشرتی بہبود کے کام کرنے والا اِنسانیة
نوع انسان، انسانی فطرت، انسان دوستی، بشر دوستی،
ہمدردی، خوش خلقی، شائستگی، مروت، خلق، تہذیب،
انسانیت، نسل انسانی مُؤَانَسة:　گہری دوستی، تعلق،
واقفیت، آشنائی، بے تکلفی، دوستی، دوستانہ، سلوک،
ہمدردی، ملنساری، تپاک، گرم جوشی، یار باشی، صحبت،
زندہ دلی، جشن سازی اِیناس:　سرور، شگفتگی، خوشی،
فرحت، تفریح، دوستانہ برتاؤ، زندہ دلی، خوش مزاجی،
گہری دوستی، ارتباط و اختلاط، بے تکلفی، میل ملاپ،
تپاک، گرم جوشی، صحبت پسندی، میل جول تأنُّس:
مجسم، زندہ نمونہ، اوتار، مظہر، انسانی شکل (مسیحیت کا
عقیدہ)۔
اِسْتِئْنَاس:　سماجی زندگی، صحبت پسندی، ملنساری آنِسَة　جمع
آنِسَات و اَوَانِس:　نوجوان خاتون، مس:　(غیر
شادی شدہ لڑکی عورت) مَأْنُوس:　عادی، واقف
مُسْتَأْنِس:　پالتو، اہلی، کمزور، دبو۔
اِنْش:　انچ (inch)
الأَنْشُوجَة:　ایک چھوٹی مچھلی (anchovy)
انص　اَنِصَ ـَ اَنِصًا اللحمُ:　گوشت کا بگڑ جانا،
خراب ہو جانا آنَصَ اِیناصًا اللحمَ:　گوشت کو نیم
بریاں کرنا۔
○ اَنْطَاکِیَة:　انطاکیہ (نام کا ایک قدیم شہر آجکل جنوبی
ترکی کا شہر)
اَنْطُولُوجی:　وجودیات کے متعلق (Ontological)
انف　اَنِفَ ـَ اَنَفًا البعیرُ:　اونٹ کی ناک میں بیماری
پیدا ہونا صفت اَنِف: اَنَفَهُ ـِ اَنْفًا:　کی ناک پر مارنا۔
الأَنْف (ع ا)　ج آناف، اُنُوف و آنُف:　ناک
(کہا جاتا ہے مات حتفَ اَنفِه:　وہ اپنی طبعی موت
مرا رَغِمَ اَنفُهُ:　وہ ذلیل و رسوا ہوا حَمِيَ اَنفُهُ:　وہ
مضبوط اور طاقت ور ہو گیا، وہ غالب اور زبردست
ہوا اَنْفُ الجبل:　پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا حصہ ہو)

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سارنگی میں لگا ہوا ہاتھی دانت یا دانت کا ایک باریک ٹکڑا یا دوتارہ میں لکڑی کی سلاخ جو اس کے ایک سرے پر خط اتصال پر لگی ہوتی ہے۔ انفُ العِجل: ایک قسم کا پھولدار پودا۔ پھول بعض جانوروں کے سروں کے مشابہ ہوتے ہیں۔

۲۔ اَنِفَ ـــ اَنَفًا من العار: خوددار ہونا، کو ناپسند کرنا صفت: اَنُوف اسم الاَنَفَة: عزت نفس۔

۳۔ تَنَفَ و استَأنَفَ الشیءَ: کو شروع کرنا۔ اِستَأنَفَ الدعوی: اس نے اپیل کی۔ محامٍ فی الاِستئناف: اپیل کنندہ وکیل۔ آنِفًا: ابھی، کہا جاتا ہے: ذکرتہ آنِفًا: میں نے ابھی (تھوڑی دیر پہلے) اس کا ذکر کیا تھا۔ آنِفَةُ الشباب: عنفوانِ شباب۔ کہا جاتا ہے۔ مضت آنِفَةُ الشباب: عنفوان شباب گزر گیا، جوش جوانی جاتا رہا۔ انفُ کل شیءٍ: ہر چیز کی ابتداء الاُنُفُ من الریاض: وہ سبزہ زار جس کو کسی نے چرا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں: غابةٌ اُنُفٌ: جنگل جس میں جانوروں نے گھاس وغیرہ نہ چرا ہو۔ کأسٌ اُنُفٌ: وہ پیالہ جس سے کسی نے پیا نہ ہو۔ اچھوتا پیالا المُستَأنَف: نیا۔

○ اَنِفَ ـ اَنَفًا من: کو حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، سے نفرت کرنا۔ ـــ ان: کچھ کرنے کو حقیر جاننا یا حقارت سے دیکھنا یا کچھ کرنے سے نفرت کرنا۔ ـــ ہ: کو تکبر سے مسترد کرنا۔ اِستَأنَفَ ہ: کو پھر شروع کرنا، کی تجدید کرنا، کا پھر آغاز کرنا، کو پھر جاری کرنا۔ ـــ ہ: (دعویٰ) کی اپیل کرنا اَنف جمع آناف و اُنُوف: ناک، پہاڑ کا ایک طرف کو نکلا ہوا حصہ، غرور، تکبر۔ رَغمَ اَنفِہِ: کی عدول حکمی میں، کی مخالفت میں، کو نقصان پہنچانے کے لئے، کو نیچا دکھانے کے لئے۔ کسر انفَہُ: کو ذلیل کرنا۔ شامخ الانف: مغرور، متکبر، خود پسند، خود بین، گھمنڈ میں چور، اکڑباز، خلوت پسند، انفی: ناک کا اَنَفَة: غرور، تکبر، استرداد ـ من: سے حقارت۔ اَنُوف: مغرور، خلوت پسند، نخوت پسند، نک چڑھا، حقارت آمیز۔ اِستِئناف: نیا آغاز، دوبارہ آغاز، تجدید، دوبارہ آغاز، از سر نو آغاز، دوبارہ کھولنا (کوئی قانونی مقدمہ) اپیل۔ قَدَّمَ اِستِئنافًا: اپیل کرنا، اپیل دائر کرنا، اِستِئنافی: اپیل کا، اپیل سننے اور فیصلہ کرنے کا مجاز۔ اِستِئنافیًا: بذریعہ اپیل۔ آنِف: پہلے یا آگے ہونے والا، بالا آنِفُ الذکر: مذکورہ بالا، آنِفًا: پہلے، اوپر، مذکورہ صدر، مذکورہ بالا (گفتگو وغیرہ میں) مُؤتَنَف: اولین،

[illegible]

اَنْفَرس: antwerp شمالی بلجیم کے ایک شہر کا نام۔

○ اِنفلُوَنزا: انفلوئنزا (influenza)

انق: ۱۔ أَنِقَ ـ اَنَقًا: خوش ہونا۔

۲۔ أَنِقَ ـ اَنَقًا الشیءَ: کسی چیز کو پسند کرنا۔ ـــ بہ: کو پسند کر کے دوسری اشیاء کے مقابلہ میں اس کو اختیار کرنا۔ ـــ الشیءُ: خوبصورت ہونا، عمدہ اور پسندیدہ ہونا، کہا جاتا: روضة انیقٌ و انیقةٌ: خوبصورت و خوش منظر باغ۔ آنَقَہُ: کو تعجب میں ڈالنا۔ آنقہ اِیناقًا و نِیقًا: کو تعجب میں ڈالنا (نیقًا مصدر خلاف قیاس ہے) تَأنَّقَ: کسی ستھری چیز کا پیچھا کرنا، نفاست پسند ہونا۔ ـــ فی الکلامِ او العملِ: گفتگو یا کام کو احتیاط اور حکمت سے کرنا۔ ـــ المکانَ: پسند آنے کے سبب کسی جگہ سے جدا نہ ہونا۔ الأَناقة و الإناقة: پسندیدہ حسن، کہا جاتا ہے۔ فیہ اناقةٌ ولباقةٌ: اس میں حسن اور پھرتی (تیز فہمی) ہے۔

۳۔ الأَنُوق (ح): عقاب، گدھ کہا جاتا ہے۔ ھو اعزُّ من بیض الأَنوق: وہ عقاب کے انڈے سے زیادہ کمیاب ہے یعنی بالکل نایاب ہے۔

○ اَنِقَ ـ اَنَقًا: صاف ستھرا ہونا، خوش ترتیب ہونا، بنا ٹھنا یا سجیلا ہونا، خوش انداز ہونا، حسین ہونا۔ ـــ ب: کے بارے میں خوش ہونا، سے لطف اٹھانا۔ آنَقَہُ: کو پسند کرنا، بہت اچھا لگنا۔ یُونِقُہُ الشیءُ: اس کو چیز پسند ہے۔ وہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ تَأنَّقَ فی: سرگرمی اور بے حد احتیاط سے کوئی کام کرنا۔ ـــ: سخت محتاط ہونا، نزاکت پسند ہونا، نازک مزاج ہونا، نفاست پسند ہونا، طرح دار ہونا، وضع دار ہونا، خوش پوش ہونا، خوش وضع ہونا، شاندار ہونا، حسین و جمیل ہونا، اناقة: خوش وضعی، سلیقہ مندی، اَنِیق: صاف ستھرا، خوش ترتیب، بنا ٹھنا، بنا سنورا، خوبصورت، شکیل، خوش اندام، خوش وضع، طرحدار، وضع دار، اَنُوق: مصری گدھ، کرگس، اعز من بیض الانوق: گدھ کے انڈوں سے زیادہ کمیاب۔ تَأنُّق: خوش وضعی، سلیقہ مندی، مُؤنِق و مُونِق: خوبصورت، حسین و جمیل، خوش انداز، دلکش، نازک مزاج، نفاست پسند۔ خوش گوار، خوش آئند، مُتَأنِّق: خوش وضع۔ طرحدار، وضع دار۔

○ انقرہ: انقرہ (ایک شہر کا نام)

○ انقلیس: بام مچھلی۔

○ اِنکِشاری جمع اِنکِشارِیَة: جانثار فوج کا سپاہی، ترکی کے محافظ دستے کا سپاہی

○ اِنکِلتِرَة: انگلستان England۔

[illegible]

برطانیہ کے جرمن فاتحین۔

○ الأنکلیز: انگریز (لوگ) انکلیزی: انگریز۔

○ اَنکلیس: بام مچھلی۔

انم: الأنام و الآنام: مخلوق نوع انسانی۔

○ اُنموذج: ماڈل، نمونہ، ٹائپ، مثال۔

○ اَنَمون: شقائق النعمان (anemone)

انی: ۱۔ أَنَى ـ أَنْيًا و إِنًى و أَنَاءً و أَنًّى تَانِيَةً: قریب ہونا، قریب آنا، آنا ـــ النباتُ: نبات کا پکنا، الأَناء والأَنَى و الإِنَى: وقت کا آنا، پکنا۔

۲۔ أَنَى یأنِی و أَنِیَ ـ أُنِيًّا و إِنًى: پیچھے رہنا، دیر کرنا، صفت: اَنِیّ، آنَى إِیناءً فلانًا: کو پیچھے ڈالنا، دیر کرانا۔

۳۔ أَنَّی یَتَأنَّی و أَنِیَ ـــ أُنِیًّا و إِنًى: دیر کرنا۔ تَأنَّی واستأنی الرجلَ: کو مہلت دینا۔ ـــ فی الأمرِ وبہ: پر غور و فکر کرنا، کا انتظار کرنا، سے انکساری سے سلوک کرنا۔ الأَنَاة: انتظار، مہلت، وقار، بردباری۔

۴۔ أَنَى ـ أَنْيًا الرجلُ: مہربان ہونا، رجلٌ آنٍ: بہت بردبار اور باوقار مرد۔ الأَنِی جمع آناء و أَنِیّ: بردباری۔

۵۔ الأَنی جمع آناءٌ و اُنِیّ: پورا دن یا اس کا حصہ آناءُ اللیلِ و اطراف النہار: رات دن، شب و روز، الإناء جمع آنِیة جمع الجمع اَوَان برتن۔

○ أَنَى ـ أَنْيًا: پک جانا، قریب آنا، پہنچنا، آنا (خصوصا وقت کا)۔ آنَی لہ ان: کچھ کرنے کے لئے اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ أَلَمْ یَانِ: کیا یہ تقریبا وقت نہیں؟ تَأنَّی: آہستہ آہستہ کرنا، کرتے رہنا، موقع کا انتظار کرنا، صابر ہونا، اِستَأنَی فی: (میں، کے ساتھ) ہچکچاہٹ، تذبذب میں پڑنا، ٹال کرنا۔ ـــ: انتظار کرنا۔ أَنًی جمع آناء: وقت (کا وقفہ، عرصہ مدت، فی أَناءِ اللیل: تمام رات، آناءَ اللیل و اطراف النہار: دن رات، شب و روز اَنَاة: احتیاط، سوچ و بچار، غور و تامل، ثابت قدمی، استقلال، مستقل مزاجی، بردباری، صبر، تحمل، برداشت، طولُ الأَناة: طویل، مصیبت، دکھ یا تکلیف، بہت تحمل، طویلُ الأَناة: بہت برداشت کرنے والا۔ إناء جمع آنِیَة و اوان: برتن، چیزدانی، ڈبہ، بوتل وغیرہ، ظرف۔ آنیة الطعام: کھانے کی میز کے استعمال کی چیزیں، چینی کے برتن، مشترکہ کھانے کا کٹ (mess kit) تَأنٍّ: آہستگی، احتیاط، سوچ بچار۔ مُتَأنٍّ: آہستہ، محتاط۔

أَنَّى: ظرف مکان و فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ جہاں

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(این کے معنی میں) جیسے اَنّٰی تَجْلِسُ اَجْلِسُ: جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ کبھی من این کا معنی دیتا ہے جیسے۔ انی لک ذلک وہ تمہیں کہاں سے ملا، کبھی متی (کب) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے: اَنّٰی جِئْتَ: تم کب آئے؟ کبھی استفہام کے لئے بمعنی کیف (کس طرح) آتا ہے۔ جیسے انی یُحْیِ ھٰذہ اللّٰہُ بعد موتھا: اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیونکر زندہ کریگا؟ انی یکونُ ذلک یہ کیسے ہوگا؟

اتو انوفیلیس (او بعوضة الاَجْمِیَّة) ایک قسم کا مچھر جس سے ملیریا پیدا ہوتا ہے (anophetles)

○ اَنِیسُون سونف، بادیان۔

اہ ہ و اِہِ و آہُ و آہِ و آہٍ و آھًا ہائے افسوس (درد کے اظہار کا لفظ ہے) آہِ من ھذا الأمر: ہائے مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے۔ اَہَ ـُ اَہًّا و اَھَۃً و اِھَۃً و تَھَّۃً: آہ بھرنا، آہ کرنا۔

○ آہِ آھًا اف، ہائے، ارے، توبہ

اھب اَھَبَ و تَاَھَّبَ لِلامرِ کسی کام کیلئے تیار ہونا، آمادہ ہونا۔ الأُھْبَۃ سامان، کہا جاتا ہے۔ اخذ للسفرِ اُھْبَتَہٗ اس نے سامان سفر تیار کیا۔ سفر کی تیاری کی۔ الإھاب جمع اُھُب و اَھَب و آھِبَۃ چمڑا، کچا چمڑا، کچی کھال۔

○ اَھَّبَ ہ/ ھ لِ کو کیلئے تیار کرنا، کو سے لیس کرنا، کو سازوسامان مہیا کرنا۔ تَاَھَّبَ تیار ہونا، ـــلِ کیلئے لیس ہونا، سازوسامان سے آراستہ ہونا۔ تیار ہونا اُھْبَۃ جمع اُھَب: تیاری، چوکسی، سازوسامان، ساز ویراق، لباس وغیرہ۔ اُھْبَۃ الحَرْب: فوجی سازوسامان، علی اھبۃ الرحیل: روانہ ہونے کیلئے تیار۔ علی اُھبۃ الاستعداد: مکمل طور پر تیار، چوکس اَخَذَ اُھْبَتَہٗ: اپنی تیاریاں کرنا۔ اِھَاب کھال، چمڑا۔ تَاَھُّب جمع تاَھُّبات تیاری۔ مُتَاَھِّب تیار۔

اھل: ا۔ اَھِلَ ـَ اَھَلاً بہ: سے دل لگانا۔ اَھِلَ المکانُ او البلدُ: جگہ یا شہر کا آباد ہونا۔ صفت آہِل و مَاھُول۔ اَھَلَ ـِ اَھْلاً و اُھُولاً الرجُلُ: شادی شدہ ہونا۔ ـــ اِمْرَاَۃً عورت سے شادی کرنا۔ صفت مفعول مَاْھُولَۃ۔ آھَلَہٗ اِیھالاً: کی شادی کرنا۔ اَھَّلَ بہ: کو اہلاً وسہلاً کرنا، کو خوش آمدید کہنا۔ تاَھَّلَ و اِتَّھَلَ شادی کرنا، گھر بار والا ہونا۔ الاَھْل جمع اَھْلُون و اَھَالٍ و آھَال و اَھْلات و اَھَلات کنبہ، رشتہ دار، اَھْلُ الرجُل: بیوی اَھْلُ الامرِ: حکام۔ اَھْلُ المَذْھَب: ہم مذہب اھلُ الوَبَر: خیموں میں رہنے والے، بدو اھل المَدَرا و الحَضر مکانوں میں رہنے والے، شہری لوگ اَھْلاً و سَھْلاً خوش آمدید۔ اصل میں یہ کلام یوں ہے: صَادَفْتَ اَھْلاً لا غُرَبَاءَ و وَطِئْتَ سَھْلاً لا وَعْرًا تو نے اپنے ہی گھر والوں کو پایا نہ کہ اجنبیوں کو اور نرم زمین میں آیا نہ کہ سخت زمین میں۔ الآھِل: بیوی بچوں والا۔ ـــ من الامکنۃ: آباد جگہ الأھِلِ و الاَھْلِیّ پالتو جانور، آپ کہتے ہیں: حیوانٌ اَھْلِیٌّ: پالتو جانور، اس کی ضد حیوانٌ بَرِّیٌّ: جنگلی جانور۔

۲۔ آھَلَ و اَھَّلَ ہ للاَمر کو کسی کام کے لائق بنانا یا سمجھنا۔ تَاَھَّلَ للامر کسی کام کے لائق ہونا۔ اِسْتَاھَلَ الرجلَ: کو کسی کام کے لائق سمجھنا۔ ـــ الشیءَ کے لائق ہونا، کا اہل ہونا۔ الاَھْلِیَّۃ قابلیت، لیاقت، صلاحیت، المُؤَھِّلات اہلیت، علمیت، صلاحیت، قابلیت، قدرت، موزونیت میلان طبع رجحان۔

○ اَھِلَ ـَ بِ سے بے تکلفانہ تعلقات ہونا، اَھِلَ (کسی جگہ وغیرہ کا) آباد ہونا۔ اَھَّلَ ہ / ھ لِ کو کیلئے موزوں بنانا، کو کا اہل بنانا۔ ـــ لِ ھ: کے لئے کسی بات کو ممکن بنانا، کو کے قابل کرنا یا بنانا، کے لئے مجاز کرنا، مختار کرنا یا بنانا، کے لئے کسی چیز کو سہل الحصول، قابل حصول یا قابل رسائی بنانا۔ ـــ ب کو خوش آمدید کہنا۔ تَاَھَّلَ لِ: کے لئے موزوں ہونا یا ہو جانا، اہل ہونا، مستند ہونا، تَاَھَّلَ: شادی کرنا، گھر بار والا ہونا۔ استاھل ھ: کا مستحق ہونا، حق دار ہونا، سزاوار ہونا، مستوجب ہونا، کے لائق ہونا، کے قابل ہونا، شایان ہونا۔ اَھْل جمع اَھْلُون و اَھالٍ: رشتہ دار، کنبہ، بیوی، لوگ، ارکان، پیروکار، حامی، حمایتی، وابستہ، وابستہ دامن، پیرو، طرف دار، ہوا خواہ، مالک، قابض، رہنے والے، ساکن، باشندہ، ـــ لِ: کا مستحق، حق دار، سزاوار، مستوجب، کے لائق، کے قابل، کے شایان، کے لئے موزوں، کا اہل، جمع اَھْلُون و الاَھالِی: (کے) باشندے، (کی) دیسی یا ملکی آبادی۔

اھل البیت: گھر کے یا کنبہ کے ارکان، لوگ۔ اھل الدار: گھر والے۔ اھل الحرفۃ: کسی پیشہ والے۔ اھل الحلف: عہد والے۔ اھلُ الخِبْرَۃ تجربہ کار لوگ، ماہرین۔ اھل السَفْسَطَۃ: سوفسطائی، غلط دلیلوں سے دھوکا دینے والے اھلُ السُنّۃ: سنی (لوگ)۔ اھل المَدَرِ و الوبرِ آبادیوں میں رہنے والے اور خانہ بدوش یا بدوی۔ اھل الوَجَاھَۃ: معززین۔ اھلاً و سھلاً: خوش آمدید! اَھْلاً بِكَ: آپ کو خوش آمدید۔ لہُ فی دارنا اھل و سھل وہ ہمارا خوش آمدید مہمان ہے۔ اَھْلِی خانگی، خاندانی، گھریلو، کنبہ کا، دیسی، ملکی، مقیم، رہائشی، وطنی، داخلی، قومی، بنك اھلی قومی بینک۔ حرب اَھْلِیَّۃ خانہ جنگی۔ محکمۃ اَھْلِیَّۃ دیسی عدالت۔ القضاء الاھلی دیسی عدالتوں کا دائرہ اختیار۔ الانتاج الاھلی گھریلو پیداوار۔ وقف اھلی خاندانی وقف۔ اَھْلِیَۃ رجحان، مناسبت، میلان، موزونیت، اہلیت، استعداد، لیاقت، قابلیت، علمیت، الاھلیۃ القانونیۃ: شہری حقوق۔ کامِل الاھلیۃ قانونی طور پر مجاز عدیمُ الاھلیۃ قانونی طور پر غیر مجاز، زیر نگرانی مُؤَھَّل لِ (کسی عہدے وغیرہ) کے قابل، اہل، لائق۔ مُسْتَاْھِل لائق، قابل، سزاوار، مستحق۔ شایان شان، موزوں، مناسب، مستوجب، حق دار آھِل و ماھول آباد (علاقہ، جگہ) مُتَاَھِّل شادی شدہ۔ اِھْلِیلَج: ہلیلہ، بڑی ہڑ، ہلیلہ کابلی۔

اَوْ: اَوْ: حرف عطف۔ مندرجہ ذیل معانی میں آتا ہے:

۱۔ شك: جیسے: بِتْنا یوما اویومین: ہم ایک یا دو دن رہے۔

۲۔ ابہام: نحن او انتم علی الحق یا تو ہم حق پر ہیں یا تم۔

۳۔ اباحت: جیسے جالِسِ العلماء او الزھّاد: علماء کے پاس بیٹھو یا زاہدوں کے پاس۔

۴۔ تخییر: جیسے: سِرْ راكبًا اَوماشیاً: سوار ہو کر چلو یا پیدل۔

۵۔ تقسیم: جیسے الکلمۃ اسم اوفعل اوحرف کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔

۶۔ کبھی اِلٰی کے معنی میں آتا ہے: لالزمَنّك او تقضِینی حقی: میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تم میرا حق دو۔

۷۔ کبھی اِلّا کا معنی دیتا ہے۔ جیسے: لَاَقْتُلَنَّ العدوّ اویخضعَ: میں دشمن سے لڑوں گا مگر یہ کہ وہ مطیع ہو جائے۔

○ اَوْ: یا، اگر نہ، جب تک نہ، سوائے اس کے کہ

آب: ا۔ آبَ ـُ اَوْبًا و مَآبًا من السفر: سفر سے واپس آنا صفت: آئِب جمع اَوْب و اُیَّاب و اُوَّاب ـــ إلی اللہ: اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، آوَبَ مُؤَاوَبَۃً الرِکابُ: چلنے میں مقابلہ کرنا۔ اَوَّبَ و اَیَّبَ عنہ: سے لوٹنا۔ تَاَوَّبَ و تَایَّبَ و اِئْتابَ لوٹنا واپس ہونا۔ الأَوْبُ و الأَوْبَۃُ و الإیابُ: واپسی، رجوع، ہم کہتے ہیں مَشَی ذھابًا و اَیابًا: وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے چلا۔ الاَوَّاب توبہ کرنے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

والا لـلـمآب　جمع وب:　واپس لوٹنے کی جگہ۔
کہاجاتا بینھما ثلاثۃ مآوِب:　ان دونوں کے
درمیان تین منزلوں کا فاصلہ ہے۔
آبَتْ ـُ أَوْبًا و مَآبًا الشمسُ:　سورج کا غروب ہونا۔
آبَ ـُ أَوْبًا و مَآبًا الماءَ:　رات کے وقت پانی پر
اترنا تَلَأَّوَّبَ و تَأَيَّبَ و ائتابَ الماءَ:　رات کے
وقت پانی پر اترنا۔
آبَ أَوْبًا إِلَيه:　کے پاس رات کے وقت آنا آوَبَ
و آوَبَ مُؤَاوَبَةً القومُ:　تمام دن چلنا اور رات کو قیام
کرنا۔
هَبَ ـُ أَوْبَاه:　کا قصد کرنا الاوب:　قصد، عادت
راستہ، جہت، کہاجاتا ہے: جاؤ و امن كلّ أَوْبٍ
وہ ہر طرف سے آئے كنتُ على صوب فلان و
أَوْبِه:　میں فلاں شخص کے روش اور طریقہ پر تھا۔
أَوِبَ ـَ أَوَبًا:　غضبناک ہونا، ناراض ہونا۔
أُوبُوبانكس (ن):　پیلے پھولوں والا درخت جس سے
گوند نکال کر دوسری جڑی بوٹیوں میں ملا کر طب میں
استعمال کی جاتی ہے۔
اوب: آبَ ـُ أَوْبًا و أَوْبَةً و إِيابًا:　واپس آنا یا لوٹنا،
آب ب:　کو پکڑنا، پھانسنا، گرفت میں لینا، کو سر لینا، سر
چڑھا لینا، مول لینا (بیماری، قرض)، اٹھانا، برداشت
کرنا، جھیلنا، کو ہونا (جیسے تکلیف) (قرض خرچ)
اٹھانا، ناراضگی وغیرہ مول لینا، کے ساتھ رہ جانا، سے
اپنا حصہ لینا من كلّ اوب:　سب طرف سے، سب
پہلوؤں سے من كلِّ اوبٍ و صوبٍ:　ہر طرف
سے ہر پہلو سے، سب طرف سے، سب پہلوؤں
سے اَوْبَةً:　واپسی اِياب:　واپسی ذهابًا و
إِيابًا:　آگے پیچھے، ادھر ادھر، اوپر نیچے۔ آتے جاتے۔
مَآب:　جگہ جہاں کوئی واپس آئے۔ واپسی ذهوب
و مآب:　آنا اور جانا آب:　اگست (مہینہ کا نام)۔
اُوبِرا و اُوپِرا:　اوپرا، آپرا، غنائیہ opera، غنائیہ خار
(opera house
اُوبَرِيت:　غنائیہ، چھوٹا آپرا (operetta)
اوت:　اگست (مہینہ کا نام، فرانسیسی لفظ)
اوت:　اُوتُوبُوس یا اُتُوبِيس:　موٹر بس
(autobus) اسے اوتو کار بھی کہتے ہیں۔ مسافروں
کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانے والی نشستوں والی
گاڑی۔
اُوتُوستراد:　گاڑیوں کے لئے چوڑی سڑک جس
کے دونوں طرف درخت اور فٹ پاتھ بنے ہوں۔
اُوتُوقراطي:　مستبدا، استبداد حاکِمٌ

اوتُوقَراطِي:　مستبد حاکم۔ (یونانی لفظ ہے)
الأوتُوقَراطِية:　مطلق العنان حکومت، استبداد
(autocracy) سلطة أوتوقراطية:　استبدادی
حکومت۔
أُوتُوماتِيك:　خودکار، خودحرکی automatic آلة
اوتوماتيكية:　خودحرکی کل۔ آپ چالو مشین۔
الهَاتِفُ الاوتوماتيكي:　خودکار ٹیلیفون (یونانی لفظ)
اُوتُوبِيس:　آٹو بس، بس۔
أُوتُوجراف جمع أوتوجرافات:　آٹوگراف، اپنی
قلمی تحریر۔
اوتوموبيل:　آٹوموبیل Automobile موٹر کار
أُوتِيل جمع أُوتِيلات:　ہوٹل hotel
اوج: الأَوْج:　بلندی، کہاجاتا ہے: أَوْجُ المجد شرافت
کی بلندی، ناموری کا اوج (فلکیات) اوج مدار قمر
(apogee) (چاند کے مدار کا وہ نقطہ جہاں وہ زمین
سے بعید ترین ہو) (علم موسیقی): فن موسیقی میں راگ کے
ایک سر کا نام۔
اوج:　بلند ترین نقطہ، نقطہ عروج، اوج، انتہاء، کلس
کنگرہ، کمال، منتہائے کمال، اوج مدار قمر، (مجازاً
شہرت، اقتدار کی) انتہاء۔
الآح:　انڈے کی سفیدی۔
آدَ ـِ أَوْدًا و أُوُودًا هُ الحملُ:　کو بوجھ کا بوجھل
کرنا الأمرُ:　کام کا کسی کو گراں بار کرنا۔ بھاری لگنا
صفت:　صفت مفعولی: مَوُودٌ تَأَوَّدَهُ الامرُ:
کو کسی کام کا شاق گزرنا، گراں کرنا الأَوْد:　تکلیف،
تکان، کہاجاتا ہے قام يَأُودُ عائِلَتَهُ:　اس نے اپنے
کنبہ کا بوجھ اٹھائے رکھا۔ (یہ جدید استعمال ہے)۔
المَوئِد جمع مَآوِد:　امر عظیم مآوِد:　مصیبتیں۔
الأَوْدَة:　بوجھ۔
٢ آدَ ـُ أَوْدًا و أَوَّدَ العُودَ:　لکڑی کو موڑنا، اور ٹیڑھا
کرنا أَوِدَ ـَ أَوَدًا و تَأَوَّدَ:　ٹیڑھا ہونا مڑنا۔ صفت
أَوِد　مونث أَوْدَاء انآدَ إنْيِآدًا:　جھکنا، مڑنا،
ٹیڑھا ہونا الأَوَد:　ٹیڑھا پن، کجی، کہاجاتا ہے: قَوَّمَ
أَوَدَهُ: اس نے اپنی کجی کو سیدھا کیا۔
آدَ ـُ أَوْدًا الفئُ:　سایہ کا ڈھلنا، ليلُ العشي:
رات کی ابتدائی تاریکی کا جھکنا۔
قَامَ بأَوَدِه:　کی ضروریات مہیا کرنا، ضرورت کے وقت
کسی کی مدد کرنا قام اَوَدَه:　کسی کی ضروریات مہیا
کرنا، ضرورت کے وقت کسی کی مدد کرنا، کی کفالت
کرنا، کا کفیل ہونا، کا سہارا ہونا، کو روزی کا ذریعہ مہیا کرنا

الأُوَار　جمع:　گرمی، پیاس، دھواں الآرَة:
چولہا۔
الأُورانيوم: يُورَينِيَم:　(ایک تابکار دھات جو ایٹم
بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے)۔
٢ الأُورِيُوميسين (طب):　بعض بیماریوں جیسے چیچک
کے علاج میں استعمال ہونے والی دوا۔
أُورُبًّا:　یورپ (Europe) أُورُبِّي:　یورپین
اورشليم:　jerusalem ـ بیت المقدس۔
(اسرائیل کا ایک شہر)
اورطه: أُرْطَة　جمع:　بٹالین (battalion)
أُورُغْوَاي:　یوراگوے Uruguay (ایک شہر کا نام)
أُورُكِسْترا:　سازندوں کا طائفہ آرکسٹرا۔ سرودگاہ
(orchestra)۔
اورنيك　جمع:　نمونہ، ماڈل، فارم، بلینک۔
أُورُبا و اوروبا:　یورپ Europe أُورُبِي:
یورپین۔
أُورُو جُوَاي:　یوروگوے Uruguay
الإِوَزَّة　جمع (ح) بط:　(فارسی لفظ) المَأْوَزَة:
وہ جگہ جہاں بطخیں بکثرت ہوں۔
أَوَّزَ على:　کا مذاق اڑانا، کا منہ چڑانا، سے مذاق کرنا، کو
چھیڑنا الأُوز:　ہنس۔
آسَ يَؤُوسُ أَوْسًا و إِياسًا:　دینا، معاوضہ
دینا استآسه:　سے بخششیں چاہنا، مدد کا خواستگار
ہونا، کی صحبت کا خواہاں ہونا الأَوْس:　عطیہ، بخشش۔
الآس　والهمة (ن):　آس جس کے پتے بہت سبز
اور تر و تازہ ہوتے ہیں۔ پھول سفید اور پھل چھوٹے
سفید و سیاہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ اسے الریحان بھی کہا
جاتا ہے۔ بیج کو عام لوگ حنبلاس کے نام سے جانتے
ہیں حَبُّ الآس:　(مورد کے دانے، آس کے دانے)
اس سے الآس البری (جنگلی آس) ہے۔
الأَوْس:　بھیڑیا۔
٢ الأُوسْمِيُوم (ك):　پلاٹینم قسم کی ایک سخت سفید رنگ
کی دھات جو سب معروف دھاتوں سے بھاری ہوتی
ہے۔ (osmium)
اوستراليا:　آسٹریلیا (Australia) براعظم و
ملک)
اوستريا:　Austria آسٹریا (ایک ملک کا نام)
اوسلو:　Oslo ایک شہر کا نام
أُوسْطَى:　دیکھو اسطی۔
الأُوكش:　نماز۔ وعظ
آفَ ـُ أَوْفًا هُ:　کو نقصان و ضرر پہنچانا۔ کو فاسد کرنا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
marfat.com
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کوخراب کرنا۔ آفَتْ اَوْفًا و آفَةً و اُوُوفًا البلادَ: شہروں کا آفت زدہ ہونا۔ الآفة جمع آفــات: آفت، مصیبت،فسادلانے والی چیز۔

○ آفَة جمع آفات: نقصان، تکلیف،ضرر،ایذا،دکھ،زخم، چوٹ، گھاٹا، آسیب، تباہی، بربادی، زوال، برائی، گناہ،معصیت،وباء،وبائی مرض،طاعون،پلیگ، بلاء، قہرالٰہی،پودوں کی وباء، مَؤُوْف: وباءزدہ۔

○ اَوْفــرَول: لبادہ جوعورتیں کام کرتے وقت پہن لیتی ہیں،اَوْوَر آل Overalls

آق: ا۔ آقَ ـــُ اَوْقًا علیہ: پرنحوست اورمصیبت لانا۔ اَوَّقَــــهُ: پرمشقت ومصیبت ڈالنا،کا کھانا کم کرنا۔ الأَوْق: بوجھ(کہا جاتا ہے: القی عَلَّی اَوْقَهُ: اس نے مجھ پر بوجھ ڈالا)نحوست(کہا جاتا ہے: بِهِ اَوْقٌ: وہ منحوس ہے)۔

۲۔ آقَ ـِ اَوْقًا علیہ: کواوپر سے جھانکنا،پرجھکنا۔

۳۔ الأوقِيَّة جمع أواقي و أواقٍ: نصف رطل کا چھٹا حصہ۔ جو چوتھائی چھٹانک ہوتا ہے۔

۴۔ الأوقيانُوس: بحرمحیط جو یورپ اورامریکہ کے درمیان واقع ہے۔(یونانی لفظ)

○ اُوْقَة= اقَّة

○ اُوَیْقَات: (اوقات کی تصغیر)تھوڑے اوقات،اچھے اوقات۔

○ اُوْقِيَة جمع اُوْقِيَات: وزن کا پیمانہ۔اونس(ounce)

○ اوكازيُون: کم قیمت پرفروخت،خصوصی فروخت۔

○ اوكرانيا: یوکرین Ukraine

اوك: اوكــالِيبْتُــوس (ن): ایک قسم کا درخت جسے شجرہ الکینا بھی کہتے ہیں،اونچائی سومیٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے جلد بڑھتا ہے اورسڑکوں کے کنارے اگایا جاتا ہے۔

۲۔ الاُوكسِيجين (ك): دیکھو الا کسجین۔

اُوكْسِيد: دیکھو الاکسید۔

○ آکسیجن: آکسیجن Oxygen

اُكسِيد جمع اکاسِيد: اوکسائڈ Oxide

آل: ا۔ آلَ ـــُ اَوْلًا و مَآلًا اليه: کی طرف لوٹنا۔ اَوَّلَهُ اليــه: کو کسی کی طرف واپس کرنا،لوٹانا۔ الــمَــآل: واپس ہونے کی جگہ۔

۲۔ اَوَّلَ الكلامَ: کی تفسیر کرنا تشریح کرنا،وضاحت کرنا،کا مطلب بیان کرنا، سے مراد لینا، کی توجیہہ کرنا،کوواضح کرنا۔ ـــــ الــرؤيــا: خواب کی تعبیر کرنا۔ تـأوَّلَ الكلامَ: بمعنی اَوَّلَ الكلامَ ــ فيه الخيرَ: میں بھلائی معلوم کرنا۔ الــمَآل: نتیجہ۔ مَـآلُ الــكلام: کلام کا مفاد،معنی الآل: (ف): سراب، وہ بخارات جو چلچلاتی دھوپ میں آسمان اورزمین کے مابین پانی کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔

۳۔ آلَ ـــُ إيالًا و أوْلًا الرعيّةَ: رعیت کا انتظام کرنا، سیاست دانی کرنا۔ ـــــ اَوْلًا و ايــالًا و إيالةً على القوم: قوم پر حاکم ہونا إئْتَــالَ الــمالَ: مال کا انتظام کرنا،کی اصلاح کرنا آلُ الــرجــلِ: آدمی کے اہل و عیال۔ آل کا لفظ صرف شرفاء کے لئے مستعمل ہے۔ چنانچہ آل الإسكاف نہیں کہا جاتا۔ (اسکاف موچی کو کہا جاتا ہے)۔ آلُ الجبل: پہاڑ کے اطراف الإيالة جمع ايالات: سیاست۔صوبہ۔

۴۔ الآلة جمع آل و الآت: اوزار، حالت،تختی۔ الآلة الــحــدبــاء: تابوت۔ الآلاتـي: سازندہ مشین مین (Machine man)

○ اٰلَ ـُ اَولًا و مَآلًا الي: کی طرف واپس آنا، رجوع کرنا، واپس جانا، لوٹنا، سے منسوب ہونا، سے منسوب ہونے کے قابل ہونا۔ سے نکلنا، مشتق ہونا، پر منتج ہونا، کا باعث ہونا یا بنانا، کی طرف میلان ہونا، کا انجام ہونا، کا نتیجہ ہونا، آخر کار کے پاس آنا یا جانا، کے ہاتھوں میں پہنچنا، آلَ الامــرُ اِلـى: معاملہ کا مدعا یا مطلب یہ تھا کہ۔ آلَ بــه المطافُ إلى: وہ آخر کار اس نقطہ تک پہنچا جہاں۔ اَوَّلَ ﻫ: کی تشریح کرنا، توضیح کرنا، توجیہ کرنا، کو واضح کرنا۔ آل: کنبہ، خاندان، رشتہ دار، اعزہ، اقارب، بھائی بند، برادری، ساتھی، ہم ذوق و ہم مشرب دوست، پکے یا کٹر حامی، لوگ سُــراب،

آلة جمع آلات: آلہ، عام استعمال کی چیز، اوزار، ہتھیار، مشین، سامان، تجرباتی آلات، تدبیر، سکیم کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ڈھنگ، وسیلہ، آلات الــحــس: حسیاتی اعضاء، آلةٌ بُــخـارِيةٌ: بھاپ سے چلنے والا انجن steam engine آلةُ الجَـرِّ: ٹریکٹر(Tractor) آلةٌ جَهَـنَّـمِيَّةٌ: جہنمی مشین inferna machine آلةٌ حــربِيةٌ: جنگی آلہ آلة التــحــريك: موٹرانجن۔ آلةٌ حَــاسِبَةٌ: حساب کرنے والی مشین Calculating Machine آلةُ الــحِيــاكَةِ: پاورلوم، مشینی کرگھا، برقی کرگھا۔(Power loom) آلة الــخِيــاطة: سلائی مشین Sewing Machine آلة راديــو: ریڈیو آلة رافِــعَــةٌ: کرین Crane، بھاری بوجھ اٹھانے کی کل، پمپ pump آلةُ التَّسْخِين یا آلةُ مُسَخِّنَةٌ: ہیٹر Heater آلةُ التــصــويــر: کیمرا (Photographic) camera آلة الــطــبــاعة: پرنٹنگ پریس آلة الــغــسل: واشنگ مشین washing machine آلة التــفــريــخ: بچے نکالنے کا آلہ (incubator) آلةُ الإسْتِــقْبَــال: ریسیور یا ریسیونگ سیٹ Rerceiver, receiving set آلة مُقَطِّرَة: قرنبیق، بھپکا distilling, still apparatus آلة کــاتِبة یا آلةُ الــكِتَــابَة: ٹائپ رائٹر (typewriter) آلةُ لَعِبِ الــقِمَار: سلوٹ مشین Slot machine (سکہ ڈال کر جوئے کا ٹکٹ نکالنے والی مشین) آلة مُــوسِــيقِيَة: آلہ موسیقی آلہ طرب musical instrument آلةُ التَّنْبِيــه: الارم، سائرن (Siren)، (کار وغیرہ کا) ہارن (بھونپو) آلةٌ صَــمَّــاءُ: (مجازا) آلہ کار، دست پروردہ، مرغ دست آموز، کٹ پتلی، کٹھ پتلی۔ آلِــي: مشینی Mechanical، کل دار mechanized، موٹرایا ہوا Motorized آلے کا، آلے کے متعلق، ساز کی(موسیقی) instrumental، غضوی، اعضاء کے متعلق، عضویاتی organic مِحْراثٌ آلِيّ: موٹر سے چلنے والا ہل (motor plow) الــقــوات الآلِيَة: موٹروں سے آراستہ فوجی حَــرَكَةٌ آلِيَة: مشینی حرکت۔ آلِيَة: مکینکس (mechanics) آلاتــي جمع آلاتية: موسیقار، گویا، مطرب، نغمہ گر۔

اول: ا۔ الأوَّل جمع أوائِــل و أوَال و أوَّلُــون م أُولى جمع أُوَل و أُولَيــات: پہلا، یہ صفت ہو تو غیر منصرف ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں: لَقِيتُــهُ عامًا اوّلَ: میں اس سے پہلے سال ملا تھا۔ دوسری صورتوں میں منصرف ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں۔ مارأيتُ له اولاً و لا آخــــرًا: میں نے اس کا پہلا اور پچھلا نہیں دیکھا۔ لقيتُه اولَ ذي يَدَين: بوقت صبح میں سب سے پہلے اسے ملا۔ اعــمــلُ كذا اوَّلَ ذي يَدَين: یہ کام میں سب سے پہلے کرتا ہوں۔ اوّلِيّة (ﻫ): بنیادی سچائی جسے کسی دلیل کی احتیاج نہ ہو جیسے الكُلُّ أكبرُ الجزء: کل جزء سے بڑا ہوتا ہے۔ اولیات تمام علوم میں مشترک ہوتے ہیں جن میں مقادیر کا مطالعہ کیا جاتا ہو ان کو بدیھیَّة بھی کہا جاتا ہے۔

۲۔ اُولاءِ و اُولَى: جمع قریب کیلئے اسم اشارہ، اس میں مذکر اور مونث برابر ہیں۔ اولاء: کے شروع میں ہائے تنبیہ داخل کر کے کہا جاتا ہے۔ هــؤلاء: اور آخر میں "ک" خطاب لاحق کر کے اُولَـــئِك کہا جاتا ہے۔ اُولاء اور اُولَی الذين کے معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں۔

۳۔ اُولُو جمع ہے اور ذو کے معنی میں یعنی اصحاب کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا واحد ذو صاحب کا معنی دیتا ہے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مونث اُوْلات ہے جس کا واحد ذات ہے۔ آپ کہتے ہیں: جاءَنی اُوْلُو العلم و اُوْلاتُ الفضل: میرے پاس علم والے اور فضل والیاں آئیں۔

○ اَوّل مونث اُوْلٰی جمع اَوَّلُون و اَوائل: پہلا، اگلا، سب سے اگلا، نمایاں، خاص الخاص، صفت اول میں، پہلے درجے میں، سب سے اول، بہت یا سب سے زیادہ یا سب سے بڑھ کر یا نہایت یا غایت درجہ اہم، اعلیٰ، بڑا، عمدہ، صدر، بڑا اہم، پیش پیش، سربرآوردہ عظیم، فراخ، کشادہ، اہم، ضروری، مقدم، سب سے اہم، مرکزی، حقیقی، اصلی، پہلا حصہ، آغاز، ابتداء، پہلے، پیشتر، پیشین، سابق، متذکرہ بالا، پہلے بیان کیا ہوا۔ الانسانُ الاوّلُ: ابتدائی انسان۔ طبیبٌ اوّلٌ: طبیب اعلیٰ (physician -in -chief) الأَوَّلُون و الأوائِل: باپ دادا، آباواجداد، گزشتہ نسلیں، اسلاف، الأوائِل الشهر: کسی مہینہ کے پہلے دس دن، مہینہ کا شروع لِأَوَّلِ مَرّةٍ یا للمرة الأولٰی: پہلی بار، پہلی مرتبہ، مِن اَوَّلِه و من اَوائِلِه: اس کی شروعات سے۔ اس کی ابتداء ہی سے، شروع ہی سے مِن أَوَّلِه اِلی آخِرِه: شروع سے اخیر تک، الف سے یے تک۔ اَوّل الامر: شروع میں۔ الاوّل فلاوّل: ہر بار پہلا دستیاب اَوَّل مَا: جس لمحے جبھی، کے شروع ہی میں اکثر مِن الاَوَّل: پہلے سے زیادہ اَوَّلًا: پہلے، اولاً سب سے پہلے، شروع میں اَوَّلًا بِاَوَّلٍ اَوَّلًا فَاَوَّلًا: بتدریج، یکے بعد دیگرے، ایک ایک کر کے، تھوڑی دیر میں، کچھ دیر بعد، جلدی۔ اَوَّلًا و أخِيرًا و اَوَّلًا و آخِرًا: پہلے اور آخر میں، سب سے پہلے اور سب سے آخر، سب ملا کر، کل، فی الجملہ، بحیثیت مجموعی، صرف اور صرف، محض، نرا۔ اَوَّلی: اول نمبر، پہلا، سب سے اچھا، بہترین، اصلی، ابتدائی، پہلا، اہم، سب سے بڑا۔ اَوَّلِين: بسیط، جوہری، عنصری، بنیادی، مرکزی، ضروری، اساسی، اول، اعلیٰ، بڑا، خاص، عمدہ، صدر، سربرآوردہ، ابتدائی، قدیم، قدیمی، ابتدائی ادوار کا، اپنی اصلی شان والا، بدعتوں سے خالی، مدرسة اوّلية: ابتدائی مدرسہ، گریڈ سکول، موادّ اوّلية: خام مال، خام سامان عددٌ اوّلي: مفرد عدد فاتورة الوّلية: زبی بچک جس میں بھیجے گئے سامان کی تفصیل ہوتی ہے۔ اور عموماً گاہک کو سامان سے پہلے بھیجا جاتا ہے (pro forma invoice) اوّلية جمع اوّليات: بنیادی سچائی، بدیہیات میں سے ایک بدیہی، ابتدائی لازمی، جزء، لازمی جزء، جزو ترکیب، عنصر، پیش روی، برتری، تقدیم، سبقت،

ترجیح، توقیت، اولیت، تقدم، ضروری ہونا۔ اَیَّل و اُیَّل جمع اَیائِل: ہرن۔ اِیالة جمع اِیالات: صوبہ، شاہ کی قائمقامی (کا منصب یا عرصہ وغیرہ) نیابت شاہی، منتظمین سلطنت، ایکُولة: دستاویزات، ملکیت، مَآل: انجام، انتہاء، حد، نتیجہ، ماحصل، حاصل، خاتمہ، اختتام، معلول۔ فی الحال و فی المآل: اب اور آئندہ تَاویل جمع تاویلات: تشریح، توضیح، تعبیر، تصریح، بیان، مطلب، مفہوم۔

اولاء، اولئك و اولائك: یہ، وہ (ذا و ذلك کی جمع)

○ اولمبی: اولمپک olympic الالعاب الاولمبية: اولمپک کھیلیں اولمبیاد: اولمپک کھیلوں کے انعقاد کا موقع۔

○ اولو: (ذوی جمع): مالکان، قابضان، لوگ، اولو الامر: حکام طاقت ور رہنما۔ اولو الحل و العقد: حکام اولو الشان: ذمہ دار لوگ۔

آم ۱۔ آمَ ـُ أُوْمًا: کو شدت کی پیاس لگنا اُوّمَةٌ: کو پیاسا کرنا۔ الأُوام: پیاس۔

۲۔ آمَ ـُ أُوْمًا و إِيامًا و أُيامًا النحلَ و عليها: چھتے کے نیچے دھواں کر کے شہد کی مکھیوں کو اڑانا تا کہ شہد حاصل کیا جائے۔ الأُوام: دوران سر الإِيام جمع اُيُم: دھواں۔

۳۔ اَوْمنيبُس: اومنی بس، بس۔

○ اوم: برقی مزاحمت کی اکائی۔

آن ۱۔ آنَ ـُ أَوْنًا علی نفسه: اپنی جان پر نرمی کرنا۔ الأَوْن: نرمی، آرام، سکون۔

۲۔ اَوَّنَ و تَأَوَّنَ الرجلُ: سنجیدہ و پروقار ہونا الأُوْن: باوقار رفتار سے چلنا۔ الآن و الأوان جمع آوِنَة: وقت۔ الآنَ: ابھی، اس وقت۔ آناء الليل: رات کی گھڑیاں۔

آن: وقت الآنَ: اب فی آن اور فی آنٍ واحدٍ: اسی وقت، بیک وقت، ساتھ ہی، مِن آنٍ الٰی آخر: وقتاً فوقتاً۔ مابين آن و آخر: اور آنًا بعد آنٍ: بعض اوقات، کبھی کبھی، کبھی کبھار، آنًا فآنًا: بتدریج تھوڑی دیر میں، کچھ دیر بعد، جلدی، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ آنًا ...... و آونةً: بعض اوقات، بعض اوقات، کبھی کبھی۔ قبلَ الآن: پہلے، پہلے زمانے میں۔ للآن اور حتّی الآن اب تک۔ بعدَ الآن: اب سے، آج سے، آج کے بعد، آئندہ، مستقبل میں۔ من الآن فصاعدًا بمعنی بعدا الآن آنئذٍ: اس وقت، تب ...

اَوْن: سکون، سکوت، خاموشی، ٹھہراؤ، وقار، متانت، نرمی، شائستگی، شرافت، حلم، بردباری، اوان جمع آونة: وقت، قبلَ اَوانِه: قبل از وقت۔ فی اَوانِه صحیح وقت پر، بروقت، برمحل۔ فی غیر اوانِه: غلط وقت پر، قبل از وقت، بے موقع، بے محل۔ بين الآونة: وقتاً فوقتاً بين الآونة و الاخری یا آونةً بعد اخری: بعض اوقات۔ آونةً واُخری: بعض اوقات۔ بعض اوقات۔ فاتَ الاوانُ: ضرورت سے زیادہ یا نا قابل یقین حد تک دیر ہو چکی ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آنَ الاوانُ: وقت آ گیا ہے۔ ــــ لِ: یہ کچھ کرنے کا وقت ہے۔

○ اونباشی: نائک corporal۔

آه: آهَ ـُ اَوْهًا و أَوَّهَ و تَأَوَّهَ: آہ کرنا، دردمند ہونا۔ الأَوَّاه بہت آہیں بھرنے والا۔ الآهة آه۔ لال بخار

○ آهَ ـُ اَوْهًا و أَوَّهَ: کراہنا، ہائے ہائے کرنا، آہ و زاری کرنا، آہیں بھرنا، واویلا کرنا۔ تَأَوَّهَ: کراہنا، ہائے ہائے کرنا، آہ و زاری کرنا، آہیں بھرنا، واویلا کرنا۔ ــــ لِ: کیلئے آہیں بھرنا۔ آہ کہنا۔ اَوَّهْ اف، ہائے ہائے، توبہ، آهٍ و آهًا و اواهْ: اف، ہائے، ارے، توبہ، آهة جمع آهات: آہ، کراہنا، تحسین و مدح کی آہیں۔ وجد اور چیخ و پکار، تَأَوُّه: کراہنا، آہ و زاری کرنا، آہیں بھرنا، تحسینی کلمات، دردناک آواز، کراہ، لمبی دردناک چیخ۔

اوی ۱۔ أَوَی ـِ أَوْيَةً و إِيَّةً مَأْوِيَةً و مَأْوَاةً له: پر نرم دل ہونا، ترس کھانا، رحم کرنا۔ إِئتَوَی و اِتَّوَی له: پر ترس کھانا۔

۲۔ أَوَی ـِ أُوِيًّا و إِوَاءً البيتَ و إلی البيت: گھر میں اترنا، گھر میں ٹھکانا لینا۔ آوَی و أَوَّی هُ البيتَ و إلی البيت: کو گھر میں اتارنا۔ تَأَوَّت و تَأَوَّتِ الطيورُ: پرندوں کا اکٹھا ہونا۔ إِئتَوَی و إِتَّوَی بمعنی أَوَی۔ المأوَی و المأواة جائے پناہ۔

۳۔ الآية جمع آيٌ و آيات علامت۔ ـ من الكتاب: قرآن کریم کی ایک آیت، عبرت۔ آيةُ الرجل آدمی کا وجود، کہا جاتا ہے۔ خرج القوم بآيتهم: قوم پوری جماعت لے کر نکلی اور اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔

۴۔ ابن آوی جمع بنات آوی (ح): گیدڑ۔ بعض اس کی کنیت ابو زہرہ بتاتے ہیں۔

○ أَوَی ـِ إِلی: کسی جگہ پناہ ڈھونڈنا، بستر پر جانا، کسی جگہ جانا۔ ـ ہ/ ہ کو پناہ دینا، کی رہائش کا انتظام کرنا، کو کمرہ دینا، کو جگہ دینا، ٹھہرانا، کے قیام کا انتظام کرنا، کو رکھنا، کا بطور مہمان استقبال کرنا، آوَاہ کو پناہ دینا، کی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رہائش کا انتظام کرنا، کو کمرہ دینا، کو جگہ دینا، ٹھہرانا، کے قیام کا انتظام کرنا، کا بطور مہمان استقبال کرنا، آوی الی: کسی جگہ پناہ تلاش کرنا، کسی جگہ جانا۔ ـــ ہ: کو پناہ دینا، کی رہائش کا انتظام کرنا، کو رکھنا، کے قیام کا انتظام کرنا، اِیـواء جگہ، جائے سکونت، مہمان خانہ، شب باشی کی جگہ، رات کاٹنے کی جگہ، پناہ دینا، جگہ دینا، مَاوٰی جمع مآوٍ جائے پناہ، پناہ گاہ، پناہ، مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، جائے آرام، گھر، مکان، رہنے کی جگہ، آیۃ جمع آی و آیات: علامت، نشانی، معجزہ، اعجوبہ، حیرت انگیز شے یا بات، نمونہ، مثال، مثل، کمال، شاہکار، قرآنی آیت۔ (آی الذکر الحکیم: قرآن حکیم کی آیات)، کسی کتاب کی عبارت، جو کہا جائے، قول مقولہ، لفظ، آیات: (محبت، شکرگزاری وغیرہ کی) انتہائی سنجیدہ یقین دہانیاں۔

ای ا۔ اَی: حرف نداء جیسے اَیْ زیدُ: اے زید! حرف تفسیر بمعنی یعنی رأیتُ غضنفراً اَیْ اسداً: میں نے غضنفر یعنی شیر دیکھا۔

○ اِیْ: ہاں (واللہ کے ساتھ: ہاں، بے شک، ہاں، اللہ کی قسم)۔

۲۔ اَیّ: شرطیہ ہے دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ جیسے: اَیًّا تضرِبْ اضرِبْ: جس کو تو مارے گا میں ماروں گا۔

۲۔ استفہام کے لئے جیسے: اَیُّکُمْ اَتٰی؟: تم میں سے کون آیا؟

۳۔ اسم موصول کے طور پر جیسے: سَلِّمْ عَلٰی اَیُّھم افضل: جوان میں افضل ہے اس کو سلام کرو۔

۴۔ کمال کے معنی پر دلالت کرنے کیلئے جیسے: زیدٌ رجلٌ اَیُّ رجلٍ: زید کامل مرد ہے۔ (مردانہ صفات میں کامل ہے)۔

۵۔ منادی معرف باللام کے شروع میں تنبیہ کیلئے جیسے یـا ایھا الرجُل و یـا ایتھا المراۃُ (اے آدمی! اے عورت۔ اس کے بعد اگر اسم جامد ہو تو مثال کے طور پر اس کا بدل ہوتا ہے اور اگر مشتق ہو تو اس کی صفت ہوتا ہے جیسے یا ایھا الفاضل: اے مرد فاضل!

ایـا: اِیـا: ضمیر منفصل منصوب سے تمام ضمائر نصب ایسے حروف کے ذریعے متصل ہوتے ہیں جن سے صاحب ضمیر کی تمیز مراد ہو جیسے: اِیَّانا و اِیَّاکم و اِیَّاہُ الخ: ہم سے ہی، تم سے ہی، اس سے ہے۔ اِیَّاكَ نعبد: ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں۔

۲۔ اَیَا: حرف ندا۔ منادی بعید کیلئے آتا ہے اور کبھی اس کی ہمزہ کو ھ سے بدل کر ھَیَا کہا جاتا ہے۔

۳۔ اَیّار: شمسی سال کا پانچواں مہینہ یعنی مئی عربی میں اسے مَایو بھی کہتے ہیں۔ سریانی لفظ ہے۔

○ اَیّ مونث اَیَّۃ: جو، جونسا، کونسا؟ کیا؟ کیسا، کس قسم کا؟ جو کوئی، جو بھی، جو بھی ہو، جو کوئی، کوئی بھی ہو، کوئی، ہر ایک کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ (نفی کے ساتھ) نہ، نہیں۔ اَیُّـمـا: جو بھی، جو کچھ بھی، کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اَیًّا کـان، اَیَّۃً کانت: جو کوئی بھی وہ (مرد، عورت) ہے، کون یا کونسا (مرد یا عورت) ہی کیوں نہ ہو، اَیُّ مَـن کـان: جو بھی ہو کوئی بھی ہو، جو کوئی، جو بھی، چاہے کوئی بھی۔ عـلـی اَیِّ حـال: بہرصورت، بہرکیف، بہرحال، ہرصورت میں، کچھ بھی کیوں نہ ہو، اَیُّ واحدٍ: کوئی ایک اِنَّ لَہُ شأناً اَیَّ شأنٍ: یہ اہم ہے اور کتنا اہم یعنی یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اُعْجِبَ بِہِ اَیَّما اِعْجَابٍ: اس نے اس کی کتنی زیادہ تعریف کی، اس نے اس کی بہت ہی تعریف کی۔ اَقْبَلَ علیہ اَیَّما اقبالٍ: اس نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی۔

○ اِیّاكَ اَن: خیال رکھنا کہ نہ، محتاط رہنا کہ نہ، اِیّاكَ و اِیّاكَ مِن: سے بچنا۔

ایب: اِیْبِیکا: (ن طب) قے کی دواء جو جنوبی امریکہ کے ایک پودے کی جڑوں سے بنائی جاتی ہے۔

آد: آدَ یَئِیدُ اَیْداً و آدًا: مضبوط ہونا، سخت ہونا۔ اَیَّدَ تَاْیِیْدًا و آیَدَ مُؤَایَدَۃً ہ: کو قوی کرنا، ثابت کرنا، صفت: مُؤَیِّد و مُؤَیِّد صفت مفعولی: مُؤَیَّد و مُؤَیَّد۔ تَـأَیَّدَ: قوی ہونا۔ الآدُ و الأَیْد: قوت، الإیَـاد ہر وہ شے جس سے کوئی چیز قوت پکڑے۔ (اِیَادُ الـجیش: فوج کا دایاں اور بایاں بازو۔ میمنہ، میسرہ) محفوظ پہاڑ، الأَیِّد قوی۔

۲۔ الإیاد پردہ، پناہ، ہوا۔ المؤیِد جمع مآوِد و مَوَائِد: مصیبت، بڑا معاملہ۔

۳۔ اِیدِیُولُوجیا: علم تصورات، نظریہ، نظریات، نظریاتی بنیاد، نظریاتی نظام (idealogy)۔

○ اَیَّـدَ ہ / ہ (شخص، دعوی، تمنا وغیرہ) کی حمایت کرنا، مدد کرنا، کی تائید کرنا، کی ہمت بڑھانا، کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ـــ ہ (خبر فیصلہ وغیرہ کی) تصدیق کرنا، توثیق کرنا، تَـأَیَّدَ حمایت کیا جانا، مدد کیا جانا، تائید کیا جانا، حوصلہ افزائی کیا جانا، تصدیق کیا جانا، توثیق کیا جانا، تأیید تصدیق، توثیق، امداد، اعانت، مدد، تائید و حمایت، سہارا، پشت پناہی تأییدًا لِ کے حق میں in support of

ایدروجین: ہائیڈروجن hydrogen قُنْبُلَۃٌ اَیدرُوجِینِیَّۃٌ ہائیڈروجن بم۔

marfat.com

○ ایران: ایران، فارس (ملک کا نام) ایرانی ایرانی فارسی (جمع ایرانیون: ایرانی، اہل فارس)۔

○ اِیـرلَـنْدَا: آئرلینڈ Ireland (ایک ملک کا نام) ایرلندی: آئرش، آئرلینڈ کا باشندہ جمع ایرلندیون: آئرلینڈی، آئرش۔

○ ایریال۔ ایریل۔ انٹینا aerial، antena

ایس: اَیِسَ یَیْـأَسُ اِیاسًا منہ: سے ناامید ہونا صف: آیِس: اَیَّسَ و آیَسَ اِیئاسًا ہُ: کو ناامید کرنا۔ الآیِسَۃ: پچاس یا پچپن سال سے زائد عمر کی عورت۔

○ اَیِـسَ ـــ اِیاسًا من: کے بارے میں امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا۔ اِیاس: ناامیدی، مایوسی، یاس، قنوط۔

○ ایشرب: کمربند، پٹکا (فرانسیسی لفظ)

آض: آضَ یَـئِیضُ اَیضًـا: ہونا، کہا جاتا ہے۔ آض سواد شعرہ بیاضاً: اس کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی اس کے بال سفید ہو گئے۔ ـــ لوٹنا، ایضاً: بھی۔ کہا جاتا ہے۔ فعلہ ایضاً: اس نے اس کو بھی کیا۔ ایضاً: (مفعول مطلق ہونے یا حال ہونے کی بنا پر منسوب ہے)۔

○ آضَ ـ ایضاً الی: کی طرف لوٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا، کچھ ہو جانا، ایضاً بھی، اور، مزید، نیز، اسی انداز سے، اسی طرح، یکساں، برابر، پھر، پھر سے، دوبارہ، مزید برآں، علاوہ ازیں۔

○ ایطالیا اٹلی Italy (ملک کا نام) ایطالی: اٹلی کا اٹلی سے متعلق جمع ایطالیون اٹلی کا باشندہ۔

ایق: الایقونۃ: مجسمہ، سٹیچو، اس کے مقابل عربی لفظ النصمۃ ہے۔

○ اِیقُونَۃ و اِیقُونِیَۃ جمع ایقونات: بت، مورتی، شبیہ، مجسمہ، بزرگوں کی تصویر جو دیواروں پر بنائی جائے (مسیحیت میں) icon

ایك: اَیِكَ ـــ اَیَكًا و استَأیَكَ الشجرُ: درخت کا گنجان اور گھنا ہونا۔ الأَیك (ن) گنجان درخت واحد ایکۃ۔

○ ایك (واحد ایکۃ) درختوں کا جھنڈ، گنجان، جھاڑیاں، جنگل جھاڑی، جنگل، بن جھاڑ، جھنکار۔

ایل ا۔ اِیل: عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام اس کا معنی قوی و قدیر ہے۔

۲۔ اِیلَنْطُس (ن): ایک تیزی سے بڑھنے والا درخت جس کی لمبائی بیس میٹر تک جا سکتی ہے۔ اس کے پتے چوڑے اور پھولوں کی بو ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۳۔ الأَیِّل و الأَیَّلُ والأُیَّل جمع ایَائِل (ح): بارہ سنگا۔
۴۔ ایلول: شمسی سال کا نواں مہینہ، ستمبر۔
○ ایلولة: ملکیت کی دستاویزات

آم: آمَ یَئِیمُ أَیْمَةً و اُیُومًا وَایْمًا الرجلُ من زوجته او المرأة من زوجها: مرد کا رنڈوا اور عورت کا رانڈیا بیوہ ہو جانا صفت أَیِّم جمع ایَائِم وأَیامی و آیِمُون وأَیِّمَات۔ أَیَّمَهُ: کو رنڈوا کرنا۔ تأَیَّمَ: عرصہ تک غیر شادی رہنا۔ المُؤیِمَة من النساء: امیر عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ مَایِمَة: کہا جاتا ہے الحرب مَأَیمَةٌ مَیْتَمَةٌ: جنگ مردوں کو قتل، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والی ہے۔
۲۔ الأَیْم جمع اُیُوم: سانپ، ازدھا، ایُمُ اللّٰه: خدا کی قسم۔ الآمَة: عیب، نقص، ذلت۔
○ آمَتْ من زوجها: بیوہ ہونا یا ہو جانا۔ ایْمَة جمع اُیُوم و تَأَیُّم: بیوگی، رنڈاپا۔ اَیِّم جمع ایَائِم و ایَامَی: رنڈوا، بیوہ۔

آن: ا۔ آنَ یَئِینُ ایْنًا: وقت کا آجانا۔ کہا جاتا ہے۔ آن لَکَ أن تفعل کذا: تمہارے لئے ایسا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ الأَیْن: وقت، تھکن، ماندگی۔ الآن والأوان: دیکھو مادہ ''اون''۔
۲۔ ایَّان: اسم شرط دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، جیسے ایَّانَ تضرب اضربْ: جب تو مارے گا میں ماروں گا اسم استفہام بمعنی متی جیسے: ایان ترجع: تو کب واپس لوٹے گا۔
۳۔ ایْنَ: اسم ظرف ہے کہاں کے معنی میں جیسے ایْنَ یوسُفُ: یوسف کہاں ہے؟ معنی شرط کے ساتھ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے خواہ ما اس کے ساتھ ملحق ہو یا نہ ہو جیسے: ایْنَ او ایْنَمَا تقِفْ اقِفْ: تو جہاں کھڑا ہو گا میں وہیں کھڑا ہوں گا۔
○ آنَ الاوَان: وقت آ گیا ہے۔ آنَ لَهُ اَن: یہ اس کے لئے وقت ہے کہ...... کرے۔ ایْنَ: کہاں، کس جگہ؟ مِن این: کہاں سے الی ایْنَ: کہاں، کسی جگہ تک، ایْنَ نحنُ مِن: ہم...... سے ابھی تک کتنی دور ہیں، دنیا ئیں ہمیں...... سے جدا کرتی ہیں۔ ایْنَ هذا من ذلك: یہ اس کے مقابلہ میں کیا ہے؟ اینما: جہاں، جہاں کہاں، جہاں بھی، کہیں بھی ایَّانَ: کب۔
○ ایَّنَ ہ: کو برقی ذروں میں تبدیل کرنا تأَیُّن: برقی ذروں میں تبدیل ہونا۔ اِیُون جمع ایُونَات: مثبت یا منفی برقی چارج والا ذرہ۔ تأَیین: برقی ذروں میں تبدیلی مُتأیِّن: ذروں میں تبدیل شدہ۔

ایه: اِیهِ: اسم فعل ہے کسی فعل یا بات کی زیادتی چاہنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
اِیهِ: اِیهَ اِیهِ: ٹھیک، درست، صحیح، نہ بھی اب، خیر دیکھا جائے گا، اچھا، اچھا یوں ہی سہی، میں بھی دیکھ لوں گا، میں سمجھ لوں گا۔ اس سے۔

ایو: ا۔ اِیون (ك): مثبت یا منفی برقی چارج والا ذرہ یا ذرّے۔
۲۔ الایوان: جمع ایوانات و اَوَاوِین (ف ب): تین طرف سے دیواروں سے گھری ہوئی مکان کی کشادہ جگہ، محل، اسی سے ہے: ایوان کسرٰی۔
۳۔ أَیَا و ایَاءُ وایَاةُ و اِیاةُ الشمس: آفتاب کی روشنی اور اس کا حسن۔ ۔ البناتِ: نباتات کی رونق اور خوش منظری۔ اِیاة الشمس: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔
○ اِیْوَان جمع اِیوَانات: نہان خانہ جیسے بیٹھک، جس کا فرش اونچا ہوتا ہے اور بڑے کمرے یا صحن کی طرف مسقف راستہ کے ذریعہ کھلتا ہے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ب

ب البـــاء۔ حروف تہجی کا دوسرا حرف اور ابجد میں اس کا نمبر ۲ ہے۔ یہ حرف جر اور کئی معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(۱) الـصـاق: جیسے: امـسـكـت بـالـغلام: میں نے لڑکے کو پکڑ لیا۔

(۲) الاستعانة: جیسے: كـتـبـت بـالقلم: میں نے قلم سے لکھا۔

(۳) المصاحبة: جیسے: اذهب بـسلام: سلامتی کے ساتھ جا۔

(۴) الظرفية: جیسے: سار بالليل: وہ رات کے وقت چلا۔

(۵) البدل: جیسے: بـاع الـكفر بالايمان: اس نے ایمان کے بدلے کفر لیا۔

(۶) التعدية: جیسے: ذهبت به إلى البيت: میں اس کو گھر لے گیا۔

(۷) القسم: جیسے: باللّٰه: خدا کی قسم۔

(۸) السببية: جیسے: لـقيـت بـزيد الاهوالَ: میں زید کی وجہ سے خطرات میں پڑ گیا۔

(۹) التوكيد: یہ زائد ہوتا ہے: كَانَ منفی کی خبر میں لفظاً یا معناً جیسے: مـا كان بكاذب: وہ جھوٹا نہ تھا۔ لیس کی خبر میں جیسے: لیـس زيـد بِـقـائم: زید کھڑا نہیں ہے۔ مـا مشابه بليس کی خبر میں۔ جیسے: ما اللّٰه بـغـافل: اللہ غافل نہیں۔ اَفْعَل صیغہ تعجب کے فاعل پر جیسے۔ اكرم به، احسِنْ بِهٖ میں (وہ کیسا سخی ہے؟ وہ کتنا حسین ہے؟) لفظ نفس اور عین سے تاکید لانے میں جیسے: جـاء الـوزيـر بـنفسـه: وزیر خود آیا۔ كَـفَى کے مفعول اور فاعل پر جب کہ تعدیہ بیک مفعول ہو۔ مفعول کی مثال: كفى بالمرء كذبا ان يـحـدث بكل ما سـمـع: ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے۔ فاعل کی مثال جیسے: كفى باللّٰه شهيدا: اللہ سب سے بہتر گواہ ہے مبتداء پر سماعاً جیسے: بـحـسـبك درهـم بمعنى حسبك درهم: تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ اذا فـجـائيـه کے بعد قیاساً جیسے: خـرجـت فاذا بزيدٍ في الطريق: جب میں نکلا تو زید راستہ میں تھا۔ حال پر جس کا عامل منفی ہو جیسے: فـما رجعت بخائب: میں ناکام نہیں لوٹا، کبھی عن، علی اور اِلی کے معنی میں بھی آتا ہے۔

بـابـا: ۱۔بـابـا و بِـهٖ: کسی سے بـابـى أنـت وامى: (میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں) کہنا۔ ــــــ الولدُ: بچہ کا بابا کہنا۔ البُوبُؤُ: اصل، چیز کا درمیانی حصہ، آنکھ کی پتلی، عالم، خوش طبع سردار۔

۲۔ البـابـا جمع بـابوات: بڑا عالم، گرجے کے سربراہ، بطرس ولی کا خلیفہ۔ (بچوں کی گفتگو میں) والد۔ نسبت کیلئے: بابوی۔

○ بـابـا: پوپ، پاپا، باپ، ڈیڈی۔ بـابَـوِی اور بَابَاوِی: پاپائی۔ بَـابَوِيَّة: پاپائیت۔ بُوبُو اور بُوْبُؤُ العين: آنکھ کی پتلی۔

بـاب: ۱۔بَـابِل: دریائے فرات کے کنارے نمرود کا بسایا ہوا شہر جو کلدانیوں کا دارالسلطنت تھا۔ البَـابـلـی: جادوگر۔ عُيُونٌ بابِلية: جادوگر آنکھیں۔

۲۔ البَابُوج جمع بوابيج: ایک قسم کا جوتا۔

۳۔البَابُور: سٹیمر۔ اس کی عربی: باخِرة: دخانی کشتی یا جہاز۔

۴۔ البَـابُـونَـج و البَـابُونِج (ن): بابونہ، زرد پھول کی ایک بوٹی۔

○ بابَه: قدیم مصر کے مسیحیوں کا دوسرا مہینہ۔

○ بابُوج جمع بَوَابِيج: سلیپر slipper۔

○ بـابور جمع بـابـورات و بَوَابِير = وابور: ریل کا انجن، انجن، دخانی کشتی یا جہاز۔

بـاتَ: ۱۔ بَـاتُـولُـوجـيـا (طـب): علم الامراض (pathology)۔

۲۔ باتيستا: کتان کا باریک کپڑا۔

○ بـاثـولـوجـی: مرضیاتی pathological۔ باثُولُوجيا: علم الامراض (pathology)۔

باج: بَأَجَ - بَأْجًا و بَاجَ: چیخنا۔ الباج: بھیڑ بکریوں کے مالک سے لیا جانے والا ٹیکس۔ قسم شکل۔ کہا جاتا ہے: النـاس باج واحد: لوگ ایک روش یا طریقہ پر ہیں۔

باد: ۱۔ الباد زَهْر: زہرمہرہ۔ زہرباد۔

۲۔ البَاذِنْجان و الباذنجان (ن): بینگن۔

بـار: ۱۔بَـأَرَ - بَـأْرًا و اِبْتَـأَرَ: کھودنا۔ أَبْـأَرَهَ: کیلئے کنواں بنانا۔ البِئْر جمع آبار و أَبْآر و بِئار و ابْؤُر (مونث): کنواں۔ البِئْرُ الأَرْتوازية: فواری کنواں، فوارہ نما کنواں، پھوار کنواں artesian well۔ البُؤْرَة: گڑھا۔

۲۔ بَأَرَ - بَأْرًا و ابتَأَرَ الشيءَ: کو چھپانا، کا ذخیرہ کرنا۔ ــــــ الخيرَ: نیکی کو پوشیدہ طور پر کرنا۔ البُؤْرَ و البِئْرَة و البَئِيرَة: ذخیرہ۔

۳۔ البُـؤْرَة: چولہا، آتشی شیشہ میں روشنی مرتکز کرنے کی جگہ۔

۴۔ البَارامون و البَيْرَامون: عیسائیوں میں مذہبی تہوار سے پہلا دن۔

۵۔ البَارَة جمع بَارَات: قرش کا چالیسواں حصہ۔

marfat.com

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

۶۔ البارَقلِیط عیسائیوں کے ہاں اس کا اطلاق روح القدس پر ہوتا ہے اور معنی جس سے مدد مطلب کی جائے ہے۔ روح القدس تثلیث کی رو سے تیسری الوہیاتی شخصیت۔

۷۔ البارِنامج و البرُنامَج جمع برامج: بجٹ، آمدوخرچ کا حساب، حدیث کے راویوں اور اسناد کتب کی فہرست، پروگرام، منصوبہ، جدول، گوشوارہ۔

۸۔ البارُود (ك): بارود۔ البَارُودَة جمع بوارِید: بندوق، رائفل۔

۹۔ بارون: یورپی نواب(baron)۔

۱۰۔ الباریوم (ك): ایک قسم کی نقرئی دھات جس کے نمک، شیشہ سازی، وارنش اور راکٹ بنانے میں کام آتے ہیں۔

○ باراشوت: پیراشوٹ(parachute)

○ باراغوای: پیراگوے(Paraguay)۔

○ باربونی: بَربُونی وبربون: ایک قسم کی سرخ رنگ کی سمندری مچھلی۔

○ بارکیة: لکڑی کا فرش۔

○ باریس: پیرس(Paris) فرانس کا دارالسلطنت۔ باریسی: پیرس کا، پیرس کے متعلق، پیرس کا رہنے والا۔

باز: ۱۔ البَاز جمع بِزان و بُؤُوز و أَبْوَز و الباز و البازی جمع أبواز و بَوَازٍ و بیزان و بُزَاة (ح): باز۔ البازدار جمع بَزَادِرَة: باز یا کوئی اور شکاری پرندہ رکھنے والا۔

۲۔ البَازار: بازار۔ البازِرکان: سوداگر، تاجر، خصوصاً کپڑے کا تاجر، عربی میں سُوقی کہتے ہیں۔

۳۔ البَازهر: دیکھو بَادِزَهر۔

○ بازَلت: بسالت(basalt)، ایک سیاہ آتش فشاں چٹان۔ بازُوَبند: بازوبند۔ کڑا، کنگن، چوڑی، پہنچی۔

باس: ۱۔ بؤُسَ ۔ بَأْسًا: مضبوط ہونا، بہادر ہونا صفت: بَئِس و بَیِس۔ البَاس: شجاعت، قوت، طاقت۔ الباسا: جنگ، لڑائی۔

۲۔ بَئِسَ ۔ بُؤْسًا و بَئِسًا و بُؤُوسًا و بُؤْسَی: بہت حاجتمند ہونا، مفلس ہونا صفت: بَائِس جمع بُؤَس۔ بِئْسَ: فعل ماضی جامد مذمت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے: بِئْسَ المصیر مصیرُ الاشرار: شرپسندوں کا انجام (بہت) برا ہے۔ یہ بِئْسَ الرجلُ کی اصل ہے۔ جسکے معنی ہے: اس مرد پر مفلسی آپڑی۔ ابْأَسَ: مصیبتوں میں گرفتار ہونا۔ ۔۔۔ ہ: کو مصیبتوں میں مبتلا کرنا۔ تَبَاءَسَ: مفلسی کا بہانا کرنا، بتکلف مفلس بننا۔ اِبْتَأَسَ: ناپسند کرنا، غمگین ہونا۔ اسی سے ہے: لاتَبْتَئِسْ بما کانوا یعملون: جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کر اور نہ شکایت کرنا۔ البَأْس: خوف (کہا جاتا ہے: لاباس به: اس پر کوئی اعتراض نہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ لابَأْسَ علیك: تم پر کوئی خوف نہیں۔ لابَأْسَ فیه: اس میں کوئی نقصان نہیں۔ لابَأْسَ ان تعرفوا: تمہارے جاننے میں کوئی دشواری نہیں)۔ عذاب۔ البُؤْس جمع أَبْؤُس و البأْسَاء و البُؤْسَی: شدت محتاجگی، مفلسی۔ بئس: بناتُ بِئْسٍ: مصائب۔ بِئْسُ و بَئِسُ العذاب: سخت عذاب۔

۳۔ الباسلیق: بازو کی ایک رگ کا نام (یونانی لفظ)۔

○ بَئِسَ ۔ بُؤْسًا: سخت غمزدہ ہونا، سخت بری حالت میں ہونا، مصیبت زدہ ہونا، بدنصیب ہونا، بدبخت ہونا۔ تَبَاءَسَ: سخت غربت کا حیلہ کرنا، مصیبت زدہ ہونے کا بہانہ کرنا۔ اِبْتَئَسَ: غمگین ہونا، پریشان ہونا، رنجیدہ ہونا۔ بِئْسَ الرجلُ: کتنا برا آدمی۔ بَأْس: طاقت، ہمت، بہادری، دلیری، نقصان، ضرر، کمزوری، مضرت، غلطی۔ شدیدُ البأس: بہادر، دلیر، بےخوف باہمت، جرأت مند۔ لاباس به: اس پر کوئی اعتراض نہیں، ناقابل اعتراض، برا نہیں، کسی حد تک اہم، قابل توجہ، معقول، قابل لحاظ، کثیر، معتدبہ۔ جیسے: کمیات لابَأْس بها: کافی یا بہت مقدار۔ تعداد۔ لابَأْسَ: پریشان نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لاباس ان: اسکی کوئی اہمیت نہیں کہ۔ أیُّ باسٍ؟: اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا کیا؟ لیس علیه باسٌ من: کو سے کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ لاباسَ علیك: یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا خوفزدہ مت ہو۔ بناتُ بئسٍ: مصیبتیں، آفتیں، نحوستیں۔ بُؤْس و بأساء بُؤُوس و بُؤْسَی جمع ابْؤُس: مصیبت، فلاس، کم بختی، بدنصیبی، خواری، شامت اعمال، کلفت۔ بئیس: بدنصیب، خستہ حال، مفلوک الحال، آفت زدہ۔ بَائِس: بدنصیب، خستہ حال، مفلوک الحال، آفت زدہ۔

○ باستیل: رنگدار پنسل بنانے کا مسالہ، رنگین پنسلوں کی تصویر۔

○ باسِیل: جراثیم۔

باش: باش: افسر۔ افسر اعلی۔ chief۔ باش کاتب: [illegible] باشا، [illegible] لقب [illegible] اعلی [illegible] اور سول افسروں کو سلطنت عثمانیہ اور ماتحت اسلامی ممالک میں عطا کیا جاتا تھا۔

۲۔ البَاشَق (ح): ایک چھوٹا شکاری پرندہ، جس کو باشہ کہتے ہیں۔

○ باش جَاوِیش اور باشحاویش: ماسٹر سارجنٹ master sergeant۔ باش حکیم: باشحکیم: طبیب اعلی۔ باشریس: (بحریہ کا ایک رتبہ) چھوٹا افسر درجہ سوم کا۔ باشمفتی: مفتی اعظم۔ باشمُفتِّش: چیف انسپکٹر۔ باشمُهَندِس: چیف انجینئر۔ باشا جمع باشوات (باشاوات): پاشا۔ (ترکی زبان میں)۔ بَاشِق و باشق جمع بَوَاشِق: باراک، شکرا۔

○ الباشِقرد: The Bashkirs

○ باشکیر (بشکیر) جمع بشاکر: تولیہ۔

○ باص جمع باصات: بس bus، آٹوبس autobus۔

باط: تَبَأَّطَ: لیٹنا، فارغ البال ہونا، مطمئن ہونا۔ ۔۔۔ عنه: سے اعراض کرنا، بےرغبت ہونا، کو ترک کرنا۔

○ باطون: کنکریٹ۔

○ باغَة: مسالہ celluloid۔ کچھوے کا خول۔

باق: بأَقَه ۔ بُؤُوقًا و انباق علیه الویلُ: پر مصیبت و ہلاکی کا اچانک آجانا۔ البَاقَة: گلدستہ۔

○ البَاکِستان: پاکستان (ایک ملک کا نام)۔ باکستانی: پاکستانی (صفت و اسم)۔

بال: ۱۔ بَوُلَ ۔ بُؤُولَةً و بآلَةً: کمزور اور زرد ہونا صفت: بئِیل۔

۲۔ البال (ح): وہیل مچھلی۔ البالةُ: کپڑوں کی گانٹھ۔ عربی میں اسے الابَالة کہتے ہیں۔

۳۔ بالطو جمع بالطات: اوورکوٹ، ڈھیلا، لبادہ، چغا، فرغل۔

۴۔ البَالُّو: ناچ گھر، عربی میں اسے مرقص کہتے ہیں، رقص، محفل رقص۔

۵۔ بالیونتولوجیا: چٹانوں میں محفوظان پتھر بنے ہوئے حیوانات کے باقیات کا علم جن کی تاریخ سینکڑوں ملین سال قدیم ہے (یعنی جو کھربوں سال پہلے پائے جاتے تھے)۔

۶۔ البَالون: غبارہ، گیند، غبارہ کو فصیح عربی میں منطاد کہتے ہیں۔

○ جُزُر البالیار: بیلرک جزیرے۔

○ بالیه: بیلے(ballet)، سنگت ناچ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بام الباميا (ن): بھنڈی۔

بان ۱۔ البان (ن): ایک درخت جس کے پتے لمبے پھول سفید ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک قسم کا تیل نکالا جاتا ہے واحد بانة ہے۔

۲۔ بانطلون جمع بانطلونات: پتلون، نیکر۔ اس کی عربی: سراویل ہے۔

○ بونس ایرس Buenos Aires: ایک شہر کا نام۔

○ شاشة باسوراميۃ: سینما سکوپ سکرین Cenemascope screet۔

باہ: بَأَهَ بَأْهًا: سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: ما باه للامر او بالامر: اس نے معاملہ کو نہیں سمجھا۔

بأو البأوباب (ن): گرم ممالک میں اگنے والا ایک درخت جس کا قطر ۸ میٹر اور محیط کا دائرہ ۲۴ میٹر تک ہوتا ہے۔ اس کی اصل استوائی افریقہ ہے۔

بای ۱۔ بَأَى بَأْوًا عليهم: لوگوں پر فخر کرنا، تکبر کرنا۔

۲۔ بَـای: (ترکی لفظ ہے اور معنی صاحب ثروت یا گھر کا مالک ہے۔ ایشیا کے وسطی علاقوں میں سرکردہ لوگوں کے لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے)۔

○ بای مونث بایه جمع بایات: بے خاندان کے ارکان کے ناموں کے بعد تونس میں لقب کے طور پر لگایا جاتا تھا۔ جیسے حمید بے۔

○ دار البای: (سابق) تونس حکومت۔

بب: البَبّ: طریقہ۔

ببر: اَلْبَبْرُ و البَبِر جمع بُبُور (ح): شیر ببر، ہندوستان کا ایک شیر جس کا پیٹ اور پہلو سفید اور کالی دھاریاں والا ہوتا ہے۔

○ بَبْر جمع بُبُور: شیر، باگ، چیتا۔

ببغ: البَبَّغاء و البَبْغاء و البَبَغاء جمع ببغاوات (ح): طوطا (مذکر و مونث)۔ البَبَّغائية: طوطے کی طرح الفاظ رٹنا، نہ معنی سمجھنا، نہ ان پر غور کرنا۔

بت: ۱۔ بَتَّ ـ بَتًّا و أَبَتَّ إِبتاتًا ہ: کو کاٹنا۔ — الأمرَ: کسی کام کو نافذ کرنا۔ بَتَّتَ ہ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ — الوعدَ: پختہ وعدہ کرنا۔ تَبَتَّتَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اِنبَتَّ: کٹ جانا۔ الباتّ: کاٹنے والا، قاطع۔ کہا جاتا ہے: بیعٌ باتٌّ: لازمی بیع۔ البَتَّة: بَتّ کا اسم مرہ۔ بَتَّةً و بَتاتًا: قطعاً، یقیناً۔ کہا جاتا ہے: لا افعله البتة: میں اس کو قطعاً نہیں کروں گا۔

۲۔ بَتَّ ـ بَتًّا و اَبَتَّ ابتاتًا الرجلَ: کو مشقت میں ڈالنا۔

۳۔ بَتَّتَہٗ: کو زاد سفر دینا۔ تَبَتَّتَ: توشہ لینا۔ البَتات جمع أَبِتَّة: توشہ، زاد راہ، گھر کا سامان (کہا جاتا ہے: هو على بتاتِ امرٍ: وہ کام کے قریب جا لگا) گھر کا سامان۔

۴۔ البَاتّ: دبلا۔ البَتّ جمع بُتُوت: گاڑھا کپڑا۔ البَتّات و البَتّيّ: موٹے کپڑے بننے والا، موٹے کپڑے بیچنے والا۔ البَتِّيَّة جمع بَتاتِيّ: لکڑی کا بڑا پیپا۔

○ بَتَّ ـ بَتًّا ہ: کو کاٹنا، الگ کرنا، جدا کرنا؛ کو مکمل کرنا، کو کر ڈالنا، انجام دینا، پورا کرنا، کو مقرر کرنا، طے کرنا، کا فیصلہ کرنا۔ — فی: پر فیصلہ کرنا۔ بَتَّتَ ہ: پر غور کرنا یا اس کی صحت یا وقوع کا اعلان کرنا، کا فیصلہ کرنا۔ اِنبَتَّ: کٹ جانا، ختم ہو جانا، ہو جانا، کا فیصلہ ہو جانا۔ قد انبت الامرُ بينه و بينهم: معاملہ نے اس اور ان کے درمیان تعلق ختم کر دیا۔ بَتّ: فیصلہ، تصفیہ۔ بَتًّا: قطعاً، آخری بار، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے۔ البَتَّة و بَتَّةً: قطعاً، یقیناً، (نفی کے ساتھ) قطعاً نہیں، یقیناً نہیں۔ بَتِّی: صاف صاف، واضح، غیر مبہم، قطعی، حتمی۔ بَتِّيَة و بِتِّيَة جمع بَتاتِيّ: پیپا، ٹب، ناند۔ بَتاتًا: قطعاً، یقیناً، صاف صاف، قطعی طور پر، واقعی، مطلقاً۔ باتّ: صاف صاف، واضح، قطعی، حتمی، آخری، فیصلہ کن، غیر مشروط۔ منع باتّ: قطعی امتناع یا مخالفت۔

بتر: ۱۔ بَتَرَہٗ ـ بَترًا: کو کاٹنا۔ بَتِرَ ـ بَتَرًا و انبَتَرَ: کٹ جانا۔ أَبتَرَهُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو بے اولاد کر دینا۔ الباتِر و البَتّار و البَتّار جمع بَواتِر: شمشیر براں۔ الأَبتَر م بَتراء: کٹا ہوا، دم کٹا۔ (— من الحیّات: چھوٹا یا زہریلا سانپ) بے اولاد جس کی نسل باقی نہ رہے۔ الأُبَیتران: غلام، جنگلی گدھا۔ البَتراء من الخُطَب: وہ خطبہ جو الحمد للہ سے خالی ہو۔

۲۔ البترول: پٹرول۔ عربی میں اسے النفط کہتے ہیں۔ جب کہ عام بول چال میں الکاز۔

○ بَتَرَ ـ بَترًا ہ: کو کاٹنا، جدا کرنا، قطع کرنا، کاٹ دینا، (عبارت کو) کانٹ چھانٹ کر بگاڑ دینا۔ اِنبَتَرَ: کٹ جانا، جدا ہو جانا، قطع ہو جانا، کاٹ دینا جانا۔ بَتر: کاٹ ڈالنا، علیحدگی، تقسیم، انقطاع، تفریق، قطع و برید، قطع عضو۔ أَبتَر: تخفیف کیا ہوا، قطع کیا ہوا، مختصر کیا ہوا، کانٹ چھانٹ کیا ہوا، قطع و برید کیا ہوا، لنڈورا کیا ہوا، دم کٹا، ترشا ہوا، کانٹ چھانٹ کر ... ناقص، ادھورا ... نامکمل

اولاد۔ بَتّار و بَاتِر: کاٹنے والا، قطع کرنے والا، تیز۔ مَبتُور: ٹوٹا ہوا، جدا کیا ہوا، غیر مربوط، بے ربط، بے جوڑ، نامکمل۔

○ بَترَك: اسقف، پادری، بزرگ خاندان، سردار۔

بتع: بَتِعَ ـ بَتَعًا: مضبوط گردن یا مضبوط جوڑوں والا ہونا صفت مذکر: أَبتَع صفت مؤنث: بَتعاء جمع بُتع۔ الأَبتَع: پر گوشت۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا كلهم أَبتَعُون: وہ سب کے سب آئے۔

○ باتِع: مضبوط، پر، سب، تمام، جملہ، پورا کا پورا، سب کا سب۔

بتك: بَتَكَ ـ بَتكًا و بَتَّكَہٗ: کو کاٹ ڈالنا۔ تَبَتَّكَ و اَنبَتَكَ: کٹ جانا، منقطع ہونا، کٹنا۔ البِتكَة جمع بِتَك: ٹکڑا، چیز کا کٹا ہوا حصہ۔ الباتِك و البَتُوك: کاٹنے والا، قاطع، تلوار۔

بتل: ۱۔ بَتَلَ ـ بَتلًا و بَتَّلَ الشيءَ: کو کاٹنا اور دوسری چیز سے جدا کرنا۔ اِنبَتَلَ: کٹنا۔ عطاءٌ بَتلٌ: بے مثل بخشش، عطاء، آخری بخشش۔ البَتِيلة و البَتلاء (ز): کھجور کا چھوٹا پودا جو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگایا جائے۔ المُبتِل (ز): وہ کھجور جس کی شاخیں کاٹ کر دوسری جگہ لگائی گئی ہوں (واحد اور جمع دونوں کے لئے)۔

۲۔ بَتَلَ و تَبَتَّلَ: دنیا سے کٹ کر خدا کی طرف رخ کرنا، تجرد اختیار کرنا، شادی نہ کرنا۔ البَتُول: غیر شادی شدہ، باکرہ، حضرت مریم علیہا السلام کا لقب (حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب)۔ البتيلة بمعنی البتول۔ البُتُولة و البُتُولية: تجرد کی حالت۔

۳۔ البَتِيل جمع بُتل: وادی کے نچلے حصہ میں پانی کا راستہ۔ کہا جاتا ہے: خصرٌ بتيل: باریک اور پتلی کمر۔

۴۔ البَتُولا (ن): برچ (ایک جنگلی درخت جس کی لکڑی بہت عمدہ ہوتی ہے روس میں بکثرت اگایا جاتا ہے۔)

○ بَتَلَ ـ بَتلًا و بَتَّلَ ہ: کو کاٹ ڈالنا، جدا کرنا، کو قطعی یا فیصلہ کن بنانا، مستحکم کرنا، کو قطعی طور پر طے کرنا۔ تَبَتَّلَ: دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کرنا، نیک ہونا، پاکیزہ ہونا، نفس کش ہونا، من مارنا، تجرد کی زندگی گزارنا۔ انبتل: کٹ جانا، لنڈورا ہونا، دم کٹا ہونا، مخفف ہونا، مختصر ہونا۔ بتول: کنواری۔ البتول: کنواری مریم علیہا السلام۔ بَتُولی: دوشیزہ کی طرح، کنواریوں کی طرح۔ بَتُولِيَّة: کنوار پن، دوشیزگی، پاکدامنی۔ مُتَبَتِّل: زاہد، عابد، سنیاسی، تارک الدنیا، گوشہ نشین،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جوگی، نیک، متقی صالح، خداترس، اللہ والا، ولی۔

بثّ: ا۔ بَثَّ ـ بَثًّا و بَثَّثَ الخبرَ: خبر پھیلانا۔ بَثَّ و بَاثَّ و أَبَثَّ فلاناً الخبرَ: کو خبر سے آگاہ کرنا، باخبر و واقف کرنا۔ تَبَاثَّ القومُ الأسرارَ: ایک دوسرے کو راز کی باتوں سے واقف کرنا۔ اِنْبَثَّ: پھیلنا۔ اِسْتَبَثَّهُ الخبرَ: سے کوئی خبر دریافت کرنا۔

۲۔ بَثَّ ـ بَثًّا و بَثَّثَ الشيءَ: کو بکھیرنا۔ اِنْبَثَّ: بکھرنا، متفرق ہونا، پھیلنا۔ البَثّ: پراگندگی۔

۳۔ بَثَّ ـ بَثًّا و بَثَّثَ الغبارَ: غبار اُڑانا۔ اِنْبَثَّ: غبار وغیرہ کا اڑنا۔

۴۔ البَثُّ: سخت غم، حالت۔

۵۔ بَثَّثَ الخبرَ: خبر پھیلانا۔ ـــ الغبارَ: غبار اُڑانا۔

○ بَثَّ ـ بَثًّا ہ: کو پھیلانا، کھولنا (جیسے کمبل کو)، کو بکھیرنا، تتر بتر کرنا، منتشر کرنا، (روح، نظریہ، عقیدہ وغیرہ) پھیلانا، کی نشر واشاعت کرنا۔ ـــ ہ ہ: کو پر چھڑکنا۔ ـــ ہ/ل ہ: کو کسی راز وغیرہ میں شریک کرنا۔ ـــ: براڈ کاسٹ کرنا، ریڈیو کے ذریعے بھیجنا، ارسال کرنا۔ بَثَّ العیونَ: ادھر ادھر جھانکنا۔ بَثَّ الألغام: سرنگیں دبانا، لگانا۔ أَبَثَّ ہ ہ: کو راز میں شریک کرنا۔ اِنْبَثَّ: پھیلنا، منتشر ہونا۔ بَثّ: پھیلانا، نشر واشاعت، غم واندوہ۔

بثر: ا۔ بَثَرَ ـ و بَثِرَ ـ و بَثُرَ ـ بَثْراً و بَثَراً و بُثُوراً و تَبَثَّرَ وجهُهُ: کے چہرے پر پھنسیاں نکلنا۔ صفت: بَثِر و بَثِیر۔ البَثْر جمع بُثُور: پھنسی۔ واحد: بَثْرَة۔

۲۔ الباثِر (فا): حاسد۔ المَبْثُور: وہ شخص جس سے حسد کیا جائے۔

۳۔ الباثِر (فا): رسنے والا پانی۔ البَثِیر: بہت، فراواں، بافراط۔ کثیرٌ بثیرٌ: بہت زیادہ۔ المَبْثُور: بہت دولت مند۔

○ بَثَرَ ـ و بَثِرَ ـ و تَبَثَّرَ: جلد میں کیل مہاسے چھالے، پھنسیاں، گومڑے سے یا دنبل نکل آنا۔ بَثْر جمع بُثُور واحد بَثْرَة جمع بَثَرات: کیل مہاسے، چھالے، پھنسیاں، گومڑے، مسے یا دنبل۔ بَثِر و بَثِیر: کیل مہاسوں والا، پھنسیوں والا۔

بثع: بَثِعَت ـ بَثَعًا الشفةُ: ہونٹوں کا خون سے بھر کر سرخ ہو جانا۔ الأَبْثَع: وہ شخص جس کے ہونٹ کثرت خون سے سرخ ہوں جمع بُثْع۔ بَثْعاء جمع بُثْع: وہ عورت جس کے ہونٹ کثرت خون سے سرخ ہوں۔

بثق: ا۔ بَثَقَ ـ بَثْقًا و تَبْثَاقًا النهرَ: دریا کے بند کو توڑنا تا کہ پانی بہے۔ البَثْق و البِثْق جمع بُثُوق: دریا کے کنارے کا ٹوٹا ہوا حصہ۔

۲۔ بَثَقَ ـ بَثْقًا و تَبْثَاقًا و بَثَّقَ السیلُ الموضعَ: سیلاب کا جگہ کو پھاڑ دینا یا اس میں شگاف کر دینا۔ اِنْبَثَقَ الماءُ: پانی کا بہہ پڑنا۔ ـــ الکلامُ: کلام کا نکلنا، جاری ہونا، ظہور ہونا، نصاریٰ کے نزدیک: روح القدس کا ظاہر ہونا، صدور ہونا۔

○ بَثَقَ ـ بثقًا النهرَ: دریا کا بند توڑنا تا کہ پانی بہہ جائے۔ اِنْبَثَقَ: زور سے نکل جانا، نکلنا۔ ـــ من/عن: سے نکلنا، جاری ہونا، ظہور ہونا۔ انبثاق: اظہار جذبات، کثرت، افراط، بہاؤ، پھٹ پڑنا، ظہور، صدور۔

بجّ: ا۔ بَجَّ ـ بَجًّا ہ: کو پھاڑنا۔ ـــ ہ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ اِنْبَجَّ: پھٹنا۔

۲۔ بَجَّ ـ بَجًّا الکلأُ الناقةَ: گھاس کا اونٹنی کو موٹا کرنا۔ الأَبَجّ: کشادہ آنکھوں والا مونث بَجَّاء۔ عینٌ بَجَّاءُ: کشادہ آنکھ۔

۳۔ البَجّ (ح): پرندہ کا چوزہ۔

۴۔ بَجْبَجَ الصبيَّ: بچہ کو بہلا کر چپ کرانا۔ تَبَجْبَجَ اللحمُ: گوشت کا زیادہ اور ڈھیلا ہونا۔

البَجْباج: موٹا، بھرے جسم والا۔ رملٌ بجباجٌ: بڑی مقدار میں ریت کا ایک جگہ اکٹھا ڈھیر۔

بجح: بَجِحَ ـ بَجَحًا بہ: سے، پر خوش ہونا۔ تَبَجَّحَ: فخر کرنا۔ ـــ في الغنی: وسیع دولت والا ہونا۔ تَبَاجَحَ: فخر کرنا، بڑا بننا اسی سے: النساء یتباجحن فیما بینهن: عورتیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں ڈینگیں مارتی ہیں، لاف زنی کرتی ہیں اور خودستائی کرتی ہیں۔ البَجَّاح: بہت فخر کرنے والا، بہت شیخی بگھارنے والا۔

○ بَجِحَ ـ بَجَحًا ب: پر خوش ہونا۔ تَبَجَّحَ ب: کے بارے میں بڑ ہانکنا، کو لہرا لہرا کر فخر سے دکھانا، کی نمود و نمائش کرنا، کے بارے میں ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا، لاف زنی کرنا۔ تَبَجُّح: شیخی بگھارنا، ڈینگیں مارنا، لاف زنی۔ مُتَبَجِّح: شیخی خورہ۔

بجد: بَجَدَ ـ بُجُودًا و بَجَّدَ بالمکان: کسی جگہ ٹھہرنا، مقیم ہونا، اقامت کرنا۔ البَجْدُ من الناس: جماعت، گروہ۔ ـــ من الخیل: سو یا سو سے زائد گھوڑے۔ بُجْدَةُ الأمر و بَجُدَتُهُ و بُجُدَتُهُ: کسی معاملہ کی حقیقت، اصلیت۔ کہا جاتا ہے: عنده بُجْدَةُ الأمر و هو ابن بجدة الأمر: وہ اس معاملہ کا [illegible] ہے۔

دھاری دار کپڑا۔

○ بَجْدَة و بُجْدَة: جڑ، اصل منبع، سرچشمہ، دل، ست، جوہر روح، بنیاد۔ بجدة الأمر: معاملات کی حقیقی حالت، سچے حقائق، معاملہ کا دل۔ هو ابن بجدتها: وہ کام کو نیچے سے اوپر تک جانتا ہے وہ اس کے لئے صحیح آدمی ہے۔

بجر: ا۔ بَجِرَ ـ بَجَراً الرجلُ: بڑے پیٹ والا ہونا، پانی اور دودھ سے بھرے پیٹ کے باوجود سیراب نہ ہونا صفت: بَجِر و أَبْجَر۔ ـــ الرجلُ: باہر کو نکلی ہوئی موٹی جڑ والی ناف والا ہونا۔ الباجر جمع بَجَرَة (فا): پھولے ہوئے پیٹ والا۔ البُجْرَة جمع بُجَر: ناف۔

۲۔ تَبَجَّرَ النبیذَ: نبیذ کے پینے میں زیادتی و اصرار کرنا۔

۳۔ البُجْر جمع أباجر و أباجیر و البُجْرِيّ جمع بَجَارِيّ: شر، بڑی بات، مصیبت، کہا جاتا ہے: لقیتُ منه البَجَارِيّ: مجھے اس سے مصیبتیں ملیں۔ البُجْرَة جمع بُجَر: عیب (کہا جاتا ہے: ذکر عُجَرَهُ و بُجَرَهُ: اس نے اس کے ظاہری و باطنی سب عیب بیان کر دیئے)۔ چہرہ۔

○ أَبْجَر: بہت موٹا، کُپا، فربہ، جسیم۔

بجس: ا۔ بَجَسَ ـ بَجْسًا و بَجَّسَ الماءَ: پانی جاری کرنا، بہانا۔ اِنْبَجَسَ و تَبَجَّسَ الماءُ: پانی کا جاری ہونا، پھوٹنا۔ البَجْس و البَجِیس: بہنے والا، پھوٹنے والا۔ کہا جاتا ہے: عینٌ بجیسٌ: بہت پانی والا چشمہ۔ ماءٌ بجیس: بہتا ہوا پانی۔ سحائب بُجَّس: برستے بادل۔

۲۔ بَجَسَ ـ بَجْسًا و بَجَّسَ الجرحَ: زخم چیرنا۔

بجع: بَجَعَ ـ بَجْعًا ہ: کو تلوار سے کاٹ دینا۔ البَجَع (ح): ایک لمبی چوڑی چونچ والا پرندہ جس کی چونچ کے نیچے ایک موٹا پوٹا ہوتا ہے۔ لق لق واحد بَجَعَة۔

○ بَجَع: (اسم جنس واحد بَجَعَة): ایک ماہی خور آبی پرندہ (pelican)۔

بجل: ا۔ بَجَلَ ـ و بَجِلَ ـ بَجَلاً و بُجُولاً: خوش ہونا۔

۲۔ بَجَلَ ـ و بَجِلَ ـ بَجَلاً: خوش حال ہونا صفت باجل۔

۳۔ بَجُلَ ـ بَجَالَةً و بُجُولاً: معزز ہونا، باشرف ہونا، صفت: بَجِیل۔ بَجَّلَهُ: کی تعظیم کرنا۔

۴۔ أَبْجَلَهُ الشيءُ: کو چیز کا کافی ہونا۔ بَجَلْ: اسم فعل بمعنی حَسْبُ۔ ہم کہتے ہیں: بَجَلُكَ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تمہارے لئے کافی ہے۔

۵۔ بَجَلْ: نعم کی طرح حرف جواب ہے بمعنی ہاں۔

الأَبْجَل جمع اَبَاجِل (ع ا): ہاتھ یا پاؤں کی ایک موٹی رگ۔

○ بَجَّلَ ہ: کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، کا ادب کرنا، کا احترام کرنا۔ ـــ ہ/ ہ علی: کو پر مقدم کرنا، کو پر برتری دینا۔ تَبَجَّل: معزز ہونا، محترم ہونا، تعظیم دیا جانا، محترم ہونا، عزت کیا جانا۔ بَجل: آتشک، باد فرنگ۔ مُبَجَّل: محترم، معزز، قابل تعظیم، عزت دار، مکرم، قابل احترام، واجب التعظیم، تقدس مآب۔

بجم: بَجَمَ - بَجْمًا و بُجُومًا: ڈر یا عاجزی کی وجہ سے چپ ہونا، دیر کرنا، افسردہ دل ہونا۔ بَجَمَ: آہستہ ہونا، دیر لگانا، تیز نظر ڈالنا۔

○ بَجَمَ - بَجْمًا و بُجُومًا: وفور جذبات سے ساکت ہونا، گونگا ہونا، بے سخن ہونا، گم سم ہونا، لا جواب ہونا، گھبرا جانا، بدحواس ہونا۔

بح: ا۔ بَحَّ - بَحًّا و بَحَحًا و بُحُوحًا و بَحاحًا و بُحُوحَةً و بَحَاحَةً: گلوگرفتہ ہونا، بیٹھی ہوئی آواز والا ہونا صفت مذکر: اَبَحّ صفت مونث: بَحَّاء و بَحَّة جمع بُحّ۔ أَبَحَّهُ و بَحَّحَهُ: کسی کو گلوگرفتہ کرنا، کی آواز بٹھانا، بھاری کرنا۔ البُحَّة: آواز کا بھاری پن اور اس کا بیٹھا ہونا۔

۲۔ بَحْبَحَ و تَبَحْبَحَ: اچھی طرح ٹھہرنا۔ بحبحت العربُ فی لغاتها: عرب کی لغت میں وسعت پیدا ہوگئی۔ تَبَحْبَحَ الدارَ: گھر کے وسط میں ٹھہرنا۔ بُحْبُوحَةُ الدارِ: گھر کا وسط یا درمیان۔ ـــ العیشِ: زندگی کی فراخی اور عمدگی۔

○ بَحَّ - بَحًّا و بَحَحًا و بُحُوحًا و بَحَاحًا و بُحُوحَةً و بَحَاحَةً: بیٹھی ہوئی آواز والا ہونا یا ہو جانا، کی آواز کا بھرائی ہوئی ہونا، گلوگرفتہ ہونا یا ہو جانا، بھاری آواز والا ہونا یا ہو جانا، سخت ہونا۔ بَحَّحَ و أَبَحَّ ہ: کو بیٹھی ہوئی آواز والا کرنا، گلوگرفتہ کرنا، کی آواز بھاری یا سخت کرنا۔ بَحَّة: گرفتہ آواز، آواز کا بیٹھا ہوا یا بھرائی ہوئی ہونا۔ مَبْحُوح: بیٹھی ہوئی آواز والا، گلوگرفتہ۔ تَبَحْبَحَ: اقبال مند ہونا، خوشحال ہونا، فارغ البال ہونا، مزے کرنا۔ بَحْبُوح: مسرور، خوش، خوش طبع۔ بُحْبُوحَةٌ: وسط، درمیان، خوشحالی اور آسائش کی زندگی، اقبال مندی، دولتمندی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات۔ فی بحبوحةِ مِن: کے درمیان (میں)، میں، کے دوران میں۔ مُبَحْبَح: خوش حال، اقبال مند، پرآسائش اور خوشحالی کی زندگی سے لطف اٹھانے والا۔

بحت: ا۔ بَحُتَ - بُحُوتَةً: خالص ہونا۔ بَاحَتَهُ الوُدَّ: کے ساتھ خالص دوستی کرنا۔ البَحْت: خالص۔ شرابٌ بَحْتٌ: خالص بے ملاوٹ شراب۔ مسكٌ بحتٌ: بغیر کسی آمیزش مشک۔ عربیٌّ بحت: خالص نسب عرب۔ مؤنث: بَحْتَة۔ لفظ بحت واحد تثنیہ اور جمع اور مذکر و مونث سب کے لئے آتا ہے۔ اگر چاہو تو مونث، تثنیہ و جمع استعمال کر سکتے ہو۔

۲۔ باحَتَ فلانًا: کو بتانا۔

۳۔ البُحْتُر و البُحْتُرِیّ: پستہ قد، پست قد، گٹھیلے بدن والا۔

○ بَحْت: خالص، ملاوٹ کے بغیر، بے میل، نرا، سراسر، فقط، محض، صرف، بے کم و کاست، بلا شرکت غیرے۔ بحت الامر: اسی معنی میں ہے۔ بَحْتًا: صرف اس لئے، نرا، محض، صرف، فقط، مخصوص طور پر۔

○ بُحْتُر: پستہ قد اور موٹا، گٹھیلا، فربہ، موٹا، تازہ۔ بُحْتُرِیّ: پستہ قد اور موٹا، گٹھیلا، فربہ موٹا تازہ۔

بحث: ا۔ بَحَثَ - بَحْثًا فی الأرض: زمین کھودنا۔ یہ مثل اسی سے ہے: کالباحِثِ عن حَتْفِهِ بظلفِهِ: اپنی تباہی کا سامان خود مہیا کرنے والے کی طرح۔ البَحْث جمع بُحاث (مص): مٹی کے نیچے کسی چیز کی تلاش سونے وغیرہ کی کان۔ المَبْحَث جمع مَبَاحِث: بحث، بحث کی جگہ۔ مباحثُ البَقَر: نامعلوم جگہ یا بنجر زمین۔

۲۔ بَحَثَ - بَحْثًا ہُ: کو طلب کرنا۔ ـــ عنه: کی تفتیش کرنا۔ تَبَحَّثَ و ابْتَحَثَ و إسْتَبْحَثَ عنه: کی تفتیش کرنا۔ البَحْث جمع بُحاث (مص): تفتیش، تحقیق۔ البَحَّاث: بہت بحث کرنے والا۔ المَبْحَثَة: بحث و تدقیق۔ البَحِیث: راز، بھید۔

۳۔ بَاحَثَهُ: کو مخاطب کرنا، سے بحث کرنا، گفتگو کرنا۔ تَبَاحَثُوا: باہم گفتگو کرنا، آپس میں بحث و مباحثہ کرنا۔

۴۔ بَحْثَرَ - بَحْثَرَةً الشیءَ فَتَبَحْثَرَ: کو بکھیرنا جس پر اس کا بکھر جانا، کو کھولنا، جدا جدا کرنا، منتشر کرنا، تو اس کا ظاہر ہو جانا اور جدا جدا ہو جانا اور منتشر ہو جانا۔

○ بَحَثَ - بَحْثًا ہ/عن: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، مانگنا، چاہنا، کی کوشش کرنا ـــ تحقیق کرنا ـــ کی تحقیقات [illegible] بغور مشاہدہ کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا (کبھی اس معنی میں فی یا علی کا صلہ بھی آتا ہے۔) ـــ ہ: (کسی موضوع یا سوال پر) بحث کرنا۔ بَاحَثَ ہ فی: سے کسی معاملہ وغیرہ پر بحث مباحثہ کرنا۔ تَبَاحَثَ: بحث کرنا باہم بحث کرنا۔ ـــ مع فی: سے کے بارے میں گفتگو کرنا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، صلاح مشورہ کرنا۔ بَحْث جمع بُحُوث و بُحُوثات و ابْحاث عن: کی تلاش، جستجو، بحث (مذکورہ بالا جملوں کے ساتھ) بغور مشاہدہ، کا مطالعہ، تحقیق (ریسرچ) تحقیقات، گہرا مطالعہ، غور و خوض، بحث مباحثہ، رسالہ، مقالہ (Treatise) جمع ابحاث: مطالعہ۔ ـــ فی: پر سائنسی رپورٹ۔ بَحَّاث جمع بَحَّاثون: عالم، فاضل، علمی تحقیق پر کام کرنے والا (research worker)۔ بَحَّاثَة: ممتاز عالم۔ مَبْحَث جمع مَبَاحِث: موضوع بحث، موضوع، مرکزی خیال (theme)، تحقیق یا بحث کا میدان، تحقیق کی چیز، ریسرچ، علمی تحقیق، مطالعہ، بغور مشاہدہ، تحقیقات۔ مُبَاحَثَة جمع مُباحثات: بات چیت، گفتگو، تبادلہ، خیال، مذاکرات، گفت و شنید، بحث، مشورہ، مشاورت، صلاح۔ بَاحِث جمع باحثون و بُحَّاث: عالم، علمی تحقیق پر کام کرنے والا، تحقیقات کرنے والا۔ بَحْثَرَ ہ: کو بکھیر دینا، منتشر کر دینا، کو ضائع کر دینا، گنوانا۔ تَبَحْثَرَ: بکھر جانا، منتشر ہو جانا، ضائع ہو جانا۔ بَحْثَرة: (عیاشی وغیرہ میں) مال اڑانا، ضائع کرنا، ہونا، تضییع۔ مُبَحْثِر: فضول خرچ، ضائع کرنے والا، مال اڑا دینے والا، مسرف۔

بحر: ا۔ بَحِرَ - بَحَرًا: ڈر سے حیران یا مبہوت ہونا۔ الباحِر: مبہوت۔

۲۔ بَحِرَ - بَحَرًا: سخت پیاس کی وجہ سے پانی سے سیراب نہ ہونا صفت بَحِر۔

۳۔ بَحَرَ - بَحْرًا الأرضَ: زمین کو چیرنا، پھاڑنا۔ ـــ الناقةَ: اونٹنی کے کان چیرنا۔ صفت مفعولی: بَحِیرَة جمع بَحَائِر و بُحُر۔

۴۔ أَبْحَرَ الماءُ: پانی کا نمکین اور کھاری ہونا۔ ـــ ت الأرضُ: زمین کا دلدلی ہونا۔ البَحْر جمع أَبْحُر و بُحُور و بِحار: تصغیر: اُبَیْحِر: نمکین یا کھاری پانی۔

۵۔ أَبْحَرَ: سمندر پر سفر کرنا۔ تَبَحَّرَ فی العلم: وسیع علم کا مالک ہونا۔ ـــ فی المال: کثیر المال ہونا۔ اِسْتَبْحَرَ فی العلم او المال: وسیع العلم یا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کثیر المال ہونا۔ الشعِرُ او الخطیبُ: شاعر یا خطیب کا لوگوں میں شہرہ ہونا۔ البَحر جمع اَبحُرُ و بُحور و بِحار۔ تصغیر اُبَیحِر: سمندر۔ (البحر المحیط: پانچوں براعظموں کو گھیرنے والا سمندر) ہر بڑا دریا جیسے دریائے نیل۔ ___ جمع بُحور من السحاز: فیاض اور بہت بھلائیاں کرنے والا۔ البَحرِی: بحر کا، بحر کے متعلق۔ البَحّار جمع بَحّارَة: ملاح۔ البَحرة جمع بِحار و بَحر: دلدل، تالاب۔ البُحَیرة: (تصغیر) جھیل، چھوٹا سمندر۔

۲۔ البحر جمع بُحور: وزن شعر جسے بحر کہا جاتا ہے۔ البَحرة جمع بِحار و بَحر: پست علاقہ، بڑا باغ۔ الباحِر: احمق، متجسس۔ الباحُور و الباحُوراء: ماہ جولائی کی سخت گرمی۔ البُحران: امراض حادہ میں اچانک پیدا ہونے والا تغیر، شدت مرض کے باعث قوتِ مدرکہ میں واقع ہونے والا خلل اور گڑبڑ۔ البَحرَین: ایک ملک کا نام، اس کی طرف نسبت بَحرَانی ہے، جو خلاف قیاس ہے۔

○ بحر - بَحراً: خوف سے چونک اٹھنا، گھبرا جانا، حواس باختہ ہو جانا، حیران ہو جانا، بوکھلا جانا۔ بَحَّرَ: بذریعہ سمندر سفر کرنا، بحری جہاز کا سفر کرنا۔ أبحَرَ: بذریعہ سمندر سفر کرنا، بحری جہاز کا سفر کرنا، جہاز پر سوار ہونا، جہاز کا سمندری سفر کا آغاز کرنا، سمندری جہاز کا چلنا، سمندری سفر پر جانا، سمندری جہاز کا روانہ ہونا، جہاز کا دریائے نیل میں بہاؤ کے رخ جانا، عازم بحر ہونا۔ تَبَحَّرَ فی: کی تہہ کو پہنچنا، کی چھان بین کرنا، کسی موضوع کا پوری طرح مطالعہ کرنا۔ اِستَبحَرَ بمعنی تَبَحَّر۔ بَحر جمع بِحار و بُحور و اَبحار و اَبحُر: سمندر، بڑا دریا، شریف اور بڑا آدمی جس کی فراخ دلی یا علم سمندر کی وسعت کے ہم پلہ ہو، شعر کا وزن۔ فی بَحرِ: کے دوران۔ فی بَحرِ سنتین: دو سالوں کے دوران، دو سالوں کے اندراندر۔ اَلبحرُ الأبیَضُ المُتَوَسِّط یا البحر الابیض: بحر ابیض متوسط (the Mediterranean)۔ بحرُ البلطیق: بحر بالٹک (the Baltic sea)۔ بحر الجَنُوب: جنوبی سمندر۔ البحر الاحمر یا بحر القُلزُم: بحر احمر یا بحر قلزم (the Red sea)۔ بحرُ الخَزَر یا البحر الکسبیاتی: بحر کیسپین (the Caspian sea)۔ البحر الأسوَد: بحر اسود (the Black sea)۔ بحر الظُلُمات: بحر اٹلانٹک (the Atlantic) بحرُ لوط یا البحر المیّت: بحر مردار (the Dead sea)۔ بحرِ النیل: دریائے نیل۔ البَحارِنَة: جزائر بحرین کے باشندے۔ بَحرانی: جزائر بحرین کا۔ البحرین: جزائر بحرین۔ بحرین (ملک)۔ بَحری: سمندری، بحری امور کے متعلق، بحریہ کا، بحری مسائل کے متعلق، بحری سیاحت کے بارے میں، بحری جہاز کا، جہاز رانی کے متعلق، ملاحوں، بحری فوج کا، جہازوں کا، جہاز رانی کا، شمالی (مصر میں)، کا شمال جمع بحریون و بحریة: ملاح، کشتی بان، جہاز ران۔ القوات البحریة: بحری فوج۔ نباتات بحریة: پانی کے پودے۔ بَحرِیَه: بحریہ، بحری طاقت، جنگی جہازوں کا بیڑہ۔ بُحَیرَة: تالاب، جوہڑ، چھوٹی جھیل۔ بَحّار جمع بَحّارُون و بَحّارَة: ملاح، جہاز ران، جمع بَحّارَة: بحری یا ہوائی جہاز کا عملہ، جہاز ران۔ بُحَیرَة جمع بُحَیرات و بَحائِر: جھیل، (تونس میں) سبزیوں کا باغ۔ بُحران: (کسی بیماری کا) تشویشناک مرحلہ یا نازک لمحہ۔ مُتَبَحِّر (فی): سے پوری طرح واقف۔ مُتَبَحِّر: گہرا مفکر، عالم فاضل، تیز فہم، زیرک۔

بخ: ا۔ بَخَّ ۔ بَخّاً فی النوم: سونے میں خراٹے لینا، غصہ ٹھنڈا کرنا۔ بَخُ: اسم فعل ہے بمعنی شاباش، آفریں، مرحبا، (تعریف اور رضامندی کے اظہار کے لئے) جب کہ مبالغہ مراد ہو تو اس کو مکرّر لاتے ہیں اور کہتے ہیں بَخٍ بخٍ یا بخٌ بَخٌّ۔

۲۔ بَخبَخَ فی النوم: نیند میں خراٹے لینا۔ ۔ البعیرُ: اونٹ کا بلبلانا اور منہ کا جھاگ سے بھر جانا۔ ___ الرجُلَ: کو شاباش دینا۔ تَبَخبَخَ الحرُّ: گرمی کا کم ہونا۔

○ بَخَّ: نیند میں خراٹے لینا۔ ___ ہ: کی پچکاری مارنا، کو یکا یک نکالنا، دھار بنا کر نکالنا۔ ___ ہ ب: کو سے چھڑکنا، سے چھینٹے اڑانا۔ بَخ بَخ: شاباش، واہ واہ، بہت اچھے، مرحبا، بہت خوب، بہت ہی اچھا۔ بَخَاخة: ناک، تھوتھنی، ٹونٹی، دہانہ، منہ۔ بخیخة: پچکاری، سرنج Syringe۔ مِبَخَّة: ناک، تھوتھنی، ٹونٹی، دہانہ، منہ۔

بخت: ا۔ بَخَتَ ۔ بَختاً ہ: کو مارنا، پیٹنا۔ بُخِتَ الرجُلُ: بزدل ہونا۔ بَخَّتَهُ: کو لاجواب کر دینا۔ البَخت: نصیب (فارسی لفظ ہے اس کی فصیح عربی حظ ہے۔ البَخیتُ و المَبخُوت: نصیبہ ور، خوش قسمت۔

۲۔ بَختَرَ بَختَرَةً و تَبَختَرَ: ناز سے چلنا، متکبرانہ چال سے چلنا۔ البَختِیر: خوبصورت جسم والا، شیخی باز، مغرور، خودبین، خودپسند، اکڑ باز، متکبر۔ البَختَرِیَّة و التَبَختُرِیَة: خود پسندانہ چال، متکبرانہ چال۔ کہا جاتا ہے: فلان یمشی البَختَرِیَّة: فلاں شخص متکبرانہ چال سے چلتا ہے۔

○ بَخَت: قسمت، نصیب، لاٹری کی ایک قسم۔ قلیل البخت: بدقسمت۔ سوء البخت: بدقسمتی۔ بَخِیت: خوش قسمت، خوش نصیب۔ مَبخُوت: خوش قسمت، خوش نصیب۔

○ تَبَختَرَ: اکڑ کر چلنا، اترانا، اکڑنا، اترا کر پھرنا۔

بخر: ا۔ بَخِرَ - بَخَراً الفمُ: گندہ دہن ہونا صفت: اَبخَر۔

۲۔ بَخَرَت ۔ بَخراً القِدرُ: ہانڈی کی بھاپ نکلنا۔ بَخَّرَ: بھاپ نکالنا۔ تَبَخَّرَ الماءُ: پانی کا بھاپ بننا یا ہونا۔ البُخار جمع اَبخِرَة (ف): بھاپ۔ الباخِرة: اسٹیمر streamer۔

۳۔ بَخَّرَهُ و عَلَیهِ: کو دھونی دینا، کو دھونی دے کر خوشبودار بنانا۔ تَبَخَّرَ: دھونی لینا، دھونی سے خوشبودار ہونا۔ البَخُور جمع أبخِرَة و بُخُورات: ہر وہ شے جس سے دھونی دی جائے۔ بخور مریم و بَخُور الاکراد و بخور البَرّ و بخورُ السودان و بخور البَربَر (ن): پودا جس کے پتے زمین پر گلدستے کی طرح جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے لمبی لمبی خمدار ڈنڈیاں نکلتی ہیں جن کے اطراف میں پھول لگتے ہیں، آرائش کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔ المِبخَرَة: عود سوز۔

○ بَخَّرَ ہ: کو بخارات میں تبدیل کرنا، بھاپ بنانا، خوشبودار بنانا، معطر کرنا، وبائی اثرات سے پاک کرنا، کے جراثیم دور کرنا، کو عود، لوبان سے خوشبودار بنانا، کو مہک دار دھوئیں سے دھونی دینا۔ تَبَخَّرَ: (پانی کا) بخارات میں تبدیل ہونا، خوشبودار ہونا، بخار بن کر اڑ جانا۔ بُخار جمع بُخارات و اَبخِرَة: بخار، دھواں، بھاپ، کہر، بخارات، دھونی۔ بُخاری: بھاپ کا، بھاپ سے چلنے والا۔ بَخُور: بخورات (بخورات کی) دھونی، لوبان۔ بَخُور مریم: (پہاڑی کنول) cyclamen۔ اَبخَر: گندہ دہنی میں مبتلا۔ مِبخَرَة جمع مَباخِر و مِبخَرات: عود سوز، عود دان، اگردان، اگردتا، دھونی۔ تَبخِیر: بخارات یا دھوئیں سے ہوا صاف کرنے کا عمل۔ بُوَیخِرَة: چھوٹی دخانی کشتی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بخز: بَخَزَ - بَخْزاً عَینَهٗ: کی آنکھ پھوڑنا۔

بخس: ۱۔ بَخَسَ - بَخْساً ہٗ: کو گھٹانا (اسی سے ہے۔ لاتبخس اخاک حقہٗ: اپنے بھائی کا حق نہ گھٹا) پر ظلم کرنا۔ تَباخَسَ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، خرید و فروخت میں ایک دوسرے کو دھوکا دینا۔ البَخْس (مص) ناقص۔ ہم کہتے ہیں: شَرَوْہٗ بثمنٍ بَخْسٍ: کو گھٹیا قیمت میں بیچ دیا۔

۲۔ بَخَسَ - عینَہٗ: کی آنکھ پھوڑنا۔

۳۔ البَخْس: بارانی زمین۔ البَخْسِیُّ من الزرع: بارانی فصل۔ الأباخِس (ع ا): انگلیاں، انگلیوں کی جڑیں، انگلیوں کا پٹھا، نس یا رگ۔

○ بَخَسَ - بَخْساً ہ: کو کم کرنا، گھٹانا۔ — قیمتَہٗ: کی قیمت کم کرنا۔ — ہ: کو نظر انداز کرنا، کو اہمیت نہ دینا، کا لحاظ نہ کرنا، کی پروانہ کرنا، سے بے توجہی کرنا، تغافل کرنا، کا دھیان کرنے میں ناکام رہنا۔

بَخْس: بہت کم۔ باخِس: تھوڑا، غیر اہم۔

بخش: ۱۔ بَخَشَ - بَخْشاً الشیءَ: میں سوراخ کرنا (عام بول چال میں)۔ البَخْش: سوراخ (عام بول چال میں)۔

۲۔ بَخْشَشَ: دینا، عطا کرنا (عام بول چال میں)۔ البَخْشِیش: انعام عطیہ، بخشش، فصیح عربی میں راشن، حلوان ہے۔ (عطیۃ مجانیۃ و اکرامیۃ بھی عام لوگوں کی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے) جمع بَخاشِیش۔

بخص: بَخَصَ - بَخْصاً عینَہٗ: کی آنکھ نکال دینا۔ — الرجُلَ: آنکھ کے اوپر یا نیچے غدہ والا ہونا، صفت مذکر: أبْخَص صفت مونث بَخْصاء جمع بُخْص: تَبَخَّصَ: تیز نظر سے دیکھنا، پلکوں کا الٹ جانا۔ البَخَص واحد بَخَصَۃ: نچلی پلک کے نیچے کا گوشت، قدم کا گوشت، انگلیوں کی جڑ کا گوشت۔ مَبْخُوصُ القدمین: پتلے پاؤں والا۔

بخع: بَخَعَ - بَخْعاً نفسَہٗ: غم یا غصے سے اپنے آپ کو ہلاکت تک پہنچانا۔ — الأرضَ بالزراعۃ: زمین پر اُسے خالی چھوڑے بغیر کھیتی باڑی کرتا رہنا۔ —— بالشاۃ: بکری کو ذبح کرتے ہوئے گدی تک کاٹ دینا۔ — لہٗ نُصْحَہٗ: کو بے لوث نصیحت کرنا۔ — ہ: کو ناامید لوٹا دینا، کو شرمندہ کرنا (عام بول چال میں)۔ بَخِعَ - بُخُوعاً و بَخاعۃً بالحق: حق کا اقرار کرنا، مان لینا۔ بَخَّعَہٗ: کو بہت ملامت کرنا، بھلا برا کہنا، جھڑکنا، کی بہت سرزنش کرنا (عام بول چال میں)۔

○ بَخَعَ - بَخْعاً نفسَہٗ: غم یا غصہ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔

بخق: بَخَقَ - بَخْقاً و اُبْخِقَ عینَہٗ: کی آنکھ کانی کرنا، آنکھ پھوڑنا۔ اُبْخَق و باخِق و بَخِیق و مَبْخُوق: کانا، یک چشم۔ بَخْقاء و باخقۃ و بخیق و بخیقۃ و مَبْخُوقۃ: کانی آنکھ۔ بَخِقَتْ - بَخَقاً عینُہٗ: کی آنکھ کا بری طرح کانی ہونا۔

بخل: بَخِلَ - بَخَلاً و بَخُلَ - بُخْلاً: بخیل ہونا، کنجوس ہونا۔ بَخِیل جمع بُخَلاء: بخیل کنجوس۔ — علیہ و عنہ: سے بخل کرنا، صفت: باخِل جمع بُخَّل۔ بَخَّلَہٗ: پر بخیل ہونے کا الزام لگانا۔ أبْخَلَہٗ: کو کنجوس پانا۔ البُخْل و البُخُل و البَخْل و البَخَل البُخُول: کنجوسی۔ البَخّال و المُبَخَّل و البَخَّل: بہت کنجوس۔ المَبْخَلَۃ: وہ چیز جو کنجوسی کا باعث ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: الوَلَدُ مَبْخَلَۃٌ مَجْبَنَۃٌ: لڑکا کنجوسی اور بزدلی کا باعث ہوتا ہے۔

○ بَخِلَ - بَخَلاً و بَخُلَ - بُخْلاً ب عن/علی: کے ساتھ یا ذریعے، کے بارے میں تنگ دل، خسیس، کنجوس یا بخیل ہونا۔ — عن/علی ب: سے کیلئے بخل کرنا۔ — ب عن/علی: میں سے کنجوسی کرنا۔ — عن/علی ب: سے کچھ روک لینا۔ تَباخَلَ عن/علی ب: کو بیدلی سے کچھ دینا۔ بُخْل: لالچ طمع، حرص، لوبھ۔ بَخِیل جمع بُخَلاء: لالچی، طامع، حریص، بخیل، کنجوس، خسیس۔

بدّ: ۱۔ بَدَّ - بَدّاً رجلیہ: ٹانگیں کھولنا۔ — الرجُلَ عن الشیء: کو سے دور کرنا، ہٹانا، روکنا۔ بَدَّ - بَدَداً: زیادتی گوشت کی وجہ سے دونوں رانوں میں فاصلہ ہونا۔ بَدَّدَ الشیءَ: کو بکھیرنا، منتشر کرنا۔ تَبَدَّدَ: بکھرنا، منتشر ہونا۔ أبادِیدَ تَبادِیدَ: کہا جاتا ہے: ذھبوا ابادیدَ تبادیدَ: وہ منتشر ہو کر چلے گئے۔ طیرٌ ابادیدُ و تبادیدُ: منتشر پرندے۔ الأبَدّ مونث بَدّاء: ہاتھوں یا رانوں میں فاصلہ والا، بڑے جسم والا جس کے بعض حصے دوسرے حصوں سے دور ہوں۔

۲۔ بَدَّدَ الرجلُ: تھکنا۔

۳۔ بادَّ مُبادَّۃً و بِداداً القومُ فی السفر: لوگوں کا سفر میں اپنا اپنا خرچ جمع کر کے اکٹھا خرچ کرنا۔ اَبَدَّ الشیءَ بینھم: ہر ایک کو اس کا حصہ دینا۔ تَبَدَّدَ القومُ الشیءَ: آپس میں [illegible] و البُدَّۃ و البُداد: نصیب، حصہ۔

۴۔ بادَّہٗ مُبادَّۃً و بِداداً: کو تبادلہ سے فروخت کرنا۔ البَدّ: عوض۔

۵۔ ابَدَّ یدَہٗ: زمین کی طرف ہاتھ بڑھانا۔

۶۔ تَبادَّ القومُ: میدان کارزار میں نکل کر اپنے اپنے مدمقابل پر حملہ کرنا، دو دو آدمیوں کا فاصلہ سے گزرنا۔ البِدّ و البَدِید: مثیل نظیر۔ ھذا بِدُّہٗ و بدیدُہٗ: وہ اس جیسا ہے۔ البِداد: مبارزت، مدمقابل۔ کہا جاتا ہے: لقوا بِدادَھم: وہ اپنے مدمقابلوں (حریفوں) سے ملے۔ بَدادِ یا بَدادِ بَدادِ: ہر شخص اپنے اپنے مدمقابل کو پکڑے۔ جاءت الخیلُ بَدادِ: گھوڑے متفرق متفرق آئے۔

۷۔ اِبْتَدَّ الرجلان فلانا بالضرب: وہ دونوں طرف سے اس کو مارنے لگے۔

۸۔ اِسْتَبَدَّ بکذا: میں آزاد ہونا، آزادانہ طرز عمل اختیار کرنا، خود رائے ہونا، منفرد ہونا۔ — الامرُ بفلان: پر کسی بات کا بے قابو ہو جانا۔ المُسْتَبِدّ: وہ شخص جو کام شروع کرنے کے بعد اسکو ختم کئے بغیر نہ چھوڑے۔

۹۔ البَدَد و البِدَّۃ: قوت، حاجت۔ البُدّ: چارۂ کار، بھاگنے کی جگہ، آپ کہتے ہیں: لابُدَّ من ھذا: یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں، یہ لازمی ہے، ناگزیر ہے۔

○ بَدَّ - بَدّاً: پھیلنا، منتشر ہونا، بکھرنا، الگ الگ حصوں میں بٹنا۔ بَدَّدَ ہ: کو تقسیم کرنا، پھیلانا، بکھیرنا، منتشر کرنا، دور کرنا، نکال دینا، خارج کرنا، الگ کرنا، کو ضائع کرنا، لٹانا، اُڑا دینا، وقت اور محنت ضائع کرنا، کام تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ دینا، برباد کرنا۔ تَبَدَّدَ: بدد کا صیغہ مجہول۔ جیسے دور ہونا، نکلنا، خارج ہونا، بکھرنا، منتشر ہونا وغیرہ۔ اِسْتَبَدَّ ب: پر اپنی رائے میں آزاد ہونا، آزادی سے کارروائی کرنا یعنی خود رائے ہونا، ہٹیلا ہونا، اڑانے والا ہونا، متعصب ہونا، کا اکیلا مالک یا قابض ہونا، پر اجارہ قائم کرنا، بلا شرکت کوئی تجارت وغیرہ کرنا، خود کوئی ایسا کاروبار کرنا جس کی دوسروں کو اجازت نہ ہو، کو قبضہ میں لینا، پر گرفت کرنا، غالب آنا، کو بے بس کر دینا، بے قابو کر دینا، (احساس و جذبات کا) کو ظالمانہ انداز سے ختم کرنا، فروخت کرنا، ٹھکانے لگانا، پر جابرانہ، جبر و استبداد یا ظالمانہ طریقے سے حکومت کرنا۔ بُدّ: نکلنے کا راستہ، نجات، چھٹکارا۔ اذا لم یکن بُدٌّ من أن: اگر یہ بات ناگزیر ہے کہ...... لابُدَّ: معین طور پر، ٹھیک ٹھیک طور پر، ناگزیر طور پر، اٹل طور پر، یقیناً۔ لابُدَّ من: یہ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ضروری ہے، ناگزیر ہے، اٹل ہے، مجبوری کی بات ہے۔ لابُدَّ لَهُ منه: اسے صرف یہ کرنا ہوگا، اسے محض یہ کرنا پڑے گا۔ مِن كُلِّ بُدٍّ: بہرحال، بہرکیف، بہرصورت۔ اَبَادِید: بکھرا ہوا، منتشر۔ تَبْدِيد: بکھیرنا، منتشر کرنا یا ہونا، انتشار، پراگندی، ہٹانا، اٹھنا، اخراج، ضیاع، عیاشی میں اڑانا۔ استبداد: آمریت، استبدادیت، ظلم، جبر، استبداد، مطلق العنانی، ظلم و جور، جور و جبر، استبدادی حکومت، شخصی حکومت، حکومت استبداد، استبداد پسندی، شخصی حکومت کا نظریہ۔ استبدادی: ظالمانہ، آمرانہ، جابرانہ، استبدادی، خودسرانہ۔ استبدادیات: آمرانہ افعال۔ مستبد: آمرانہ، خودمختارانہ، من مانی، ظالمانہ، جابرانہ، استبدادی، خودسرانہ، ظالم، جابر، جابر حکمران، خودسر، مطلق العنان۔ مُسْتَبِدٌّ بِرَأْيِهِ: خودرائے ضدی، منہ زور، سرکش، سرچڑھا، ہٹیلا۔

بدأ: بَدَأَ - بَدْأً و ابْتَدَأَ و تَبَدَّأَ الشيءَ و بِهِ: کو شروع کرنا، کو پہلے کرنا۔ ــــ بِفلانٍ: کو آگے بڑھانا۔ ــ الشيءَ: کو شروع کرنا، پیدا کرنا۔ بَدَّأَ ہ: سے شروع کرانا، کو پہلے رکھنا، فضیلت دینا۔ البدء جمع اَبْدَاء و بُدُوء و البَدْأَة و البَدَاءَة و البَدِيئَة: شروع، ابتداء۔ کہا جاتا ہے: اِفْعَلْهُ بَدْأً و بَدْءَ بَدْءٍ و اوَّلَ بدءٍ و بَادِيَ بَدْءٍ و بَدْأَةَ ذي بدءٍ: میں اس کو سب سے پہلے کروں گا۔ البَدْأَة: کسی جگہ کے لئے سفر کی ابتداء۔ آپ کہتے ہیں: اكتريتُ الفرسَ لِلبدأةِ والرَّجْعَة: میں نے گھوڑے کو سفر پر جانے آنے کے لئے کرایہ پر لیا۔ المَبْدَأ جمع مَبَادِئ: اصل، سبب۔ المُبْتَدَأ: اول، پہلا، واسم، مسند الیہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو جیسے: اللّٰهُ بارئُ العالَمِ: اللہ خالق کائنات ہے۔ یہاں اللہ (مسند الیہ) مبتدأ ہے۔ باری مسند (خبر) ہے۔ الإبتدائيّ: پہلا، ابتدائی۔ المحكمة الابتدائية: وہ عدالت جو ابتدائی طور پر دیوانی اور فوجداری مقدمات سننے کی مجاز ہو (Court of first instance)۔ التعليم الابتدائي: ابتدائی تعلیم Elementary education۔ الشهادة الابتدائية: ابتدائی تعلیم کا سرٹیفیکیٹ Junior high school graduation certificate۔

۲۔ بَدَأَ و أَبْدَأَ اللّٰهُ الخلقَ: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا۔ صفت: بَادِئ و مُبْدِئ۔

۳۔ اَبْدَأَ الرجلُ: تعجب انگیز کام کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مايُبدئ و مايُعيد: فلاں شخص کچھ بھی نہیں بولتا۔

○ بَدَا - بَدْأً ب/في ہ/ه: کے ساتھ کو شروع کرنا، کے ساتھ کا آغاز کرنا، کو کرنا شروع کرنا۔ ـــــ: شروع کرنا، رائج ہونا، اٹھنا، کھڑے ہونا، یکا یک اٹھ بیٹھنا، دکھائی دینا، نکل آنا۔ بَدَّأَ ہ علی: کو کے سامنے رکھنا، کو پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، مقدم کرنا۔ بَادَأَ ب ہ: کو شروع کرنا، کے بارے میں۔ ـــ ب ہ: کی طرف پہلا قدم اٹھانا، پیش قدمی کرنا، پہل کرنا۔ بَادَأَ ہ بالكلام: کو مخاطب کرنا، سے سب سے پہلے بات کرنا۔ اَبْدَأَ ہ: کو سب سے پہلے کرنا، بنانا، نئی چیز کو واضح کرنا، شائع کرنا۔ مايُبدئ و مايُعيد: وہ کوئی اچھی بات کہنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ يُبدئ و يُعيد: وہ ہر قابل فہم بات کہتا ہے وہ ہر سمجھ میں آنے والا کام کرتا ہے۔ اِبْتَدَأَ ب: کو شروع کرنا۔ بَدْءٌ: شروع، آغاز۔ منذ البدءِ: شروع (ہی) سے۔ فعله عَوْداً و بَدْءاً یا عَوْدَهُ على بَدْئِهِ یا عوداً إلى بدءٍ: اس نے سب دوبارہ کیا اس نے نئے سرے سے شروع کیا۔ بَدْأَة و بَدِيئَة و بِداية: شروع، آغاز۔ في بدايةِ الأمر: شروع میں۔ بَدَاءَة: شروع، پہلا قدم۔ بَدَاءَةَ بَدْءٍ: شروع ہی میں۔ بُدائي: ابتدائی ادوار کا، قدیمی، قدیم۔ مَبْدَأ جمع مَبَادِئ: شروع، آغاز، نقطۂ آغاز، بنیاد، اصول، ایجاد جمع اصول، یقین کامل، نظریہ، نظریاتی بنیاد یا نظام، نقطۂ نظر، مبادی، بنیادی تصورات، مبادی، مبادیات۔ كُتُبُ المبادئ: ابتدائی کتابیں۔ مَبْدَئِيّ: تخلیقی، طبع زاد، ابتدائی، بنیادی، اساسی۔ مَبْدَئِيّاً: اصولی طور پر، دراصل، ابتداء، شروع، آغاز۔ اِبْتِدَاءً مِن: سے، سے شروع ہوتے ہوئے (جس کے بعد تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے)۔ اِبتدائي: ابتدائی، بنیادی، پرائمری، اصل، ابتدائی ادوار کا۔ مدرسة ابتدائية: ابتدائی مدرسہ پرائمری سکول۔ Junior high school۔ بادئ: شروع کرتے ہوئے۔ بادئَ الأمر اور في بادئ الأمر: شروع میں۔ في بادئ الرأي: دوبارہ غور کئے بغیر، بلا جھجک۔ بادئَ ذي بدءٍ: سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر یہ کہ، ابتدائی طور پر۔ البادي ذِكْرُهُ: جس کا شروع میں ذکر کیا گیا، جس کا پہلے ذکر کیا گیا۔ مُبْتَدِئ: شروع، شروع کرنے والا، نوآموز [illegible] الیہ، جملہ اسمیہ کا مبتداء (فاعل)۔

بدح: بَدَحَ - بَدْحاً ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ــ بالسِّرِّ: راز کھول دینا۔ تَبَادَحُوا بالشيءِ: کو باہم مل کر پھینکنا۔ البَدْحُ جمع بُدُوح و بِداح و البَدَاح جمع بُدُح و البُدْحَة: کشادہ زمین۔

بدخ: بَدَخَ - و بَدُخَ - بَدَخاً و بَدَاخَةً: بلند مرتبہ ہونا صفت: بَدِيخ جمع بُدَخاء۔ تَبَدَّخَ عليه: سے بڑا بننا۔

بدر: ا۔ بَدَرَ - بُدُوراً إلى الشيءِ: کی طرف جلدی کرنا۔ ــــ ہ إلى الشيءِ: کے لئے کسی پر سبقت کرنا۔ بَادَرَ مُبَادَرَةً و بِدَاراً إلى الشيءِ: کی طرف لپکنا، جلدی کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو لینے کے لئے جلدی کرنا۔ ـ فلاناً الشيءَ و إليه: کے لئے کسی سے سبقت لیجانا۔ تَبَادَرَ القومُ: جلدی کرنا۔ إبْتَدَرَ القومُ امراً: کسی کام کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لیجانے کے لئے آگے بڑھنا۔ بَدَارِ: اسم فعل بمعنی اسرع (جلدی کر)۔ البادِر جمع بَوَادِر: جلدی کرنے والا، سبقت کرنے والا۔ البَادِرَة جمع بَوَادِر: تیزی، شتابی تیزی کے وقت کی خفیف الحرکتی۔ کہا جاتا ہے: بَدَرَت منه بوادرُ غضبٍ: اس سے غصہ کی حرکات سرزد ہوئیں۔ البَدَرَى: مسابقت۔ کہا جاتا ہے: استبقنا البَدَرَى: ہم نے سبقت لیجانے کے لئے دوڑ کی۔ المُبَادَرَة (مص): دوسروں سے پہلے کی گئی تجویز یا ان سے پہلے اس میں سبقت۔ المبادرة في الحرب: جنگ میں پہل کاری جس سے دشمن پر فتح ہو۔

۲۔ أَبْدَرَ: پر چودھویں رات کے چاند کا طلوع ہونا، چودھویں رات میں چلنا۔ البَدْر جمع بُدُور: بھرپور چاند، چودھویں رات کا چاند، تھالی، طباق۔ ليلة البدر: چاند کی چودھویں رات۔

۳۔ البَدْرَة جمع بِدَر و بُدُور: دس ہزار درہم۔ ـــ مِن المال: کی بڑی مالیت (کہا جاتا ہے: فلانٌ يهب البدور: فلاں شخص ہزاروں کی تھیلیاں عطا کرتا ہے)۔ ہزاروں درہموں کی تھیلی۔ البَدْرِيّ: جاڑے سے کچھ قبل ہونے والی بارش، عام لوگ کہتے ہیں: جئتُ بَكْرِي: میں علی الصبح آیا۔ البادِرة جمع بوادر: پھل کی طرف سے تیر کی نوک (کہا جاتا ہے: اصابته بادرة السهم: اس کو تیر کی نوک لگی) مونڈھے اور گردن کے درمیان کا گوشت۔ البَيْدَر جمع بَيَادِر (ز): کھلیان۔

○ بَذَرَ - بذرا: غیر متوقع طور پر آجانا، اچانک آجانا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ــ من: جوش میں کسی کے منہ سے کوئی بات نکل جانا۔ بَــادَرَہٗ: اچانک کسی کے ذہن میں آنا، کسی کو سوجھنا (خیال وغیرہ کا کسی کو اچانک آنا، کو خیال آنا۔ ــ اِلی: کوئی کام شروع کرنا، کسی کام کا آغاز کرنا، بلا تاخیر کوئی کام کرنے کے لئے روانہ ہونا، کسی کے پاس یا کسی جگہ تیزی سے جانا۔ ــ ب: کوئی کام عجلت سے کرنا۔ ــ اِلی (مصدر سے پہلے): کوئی کام مستعدی سے یا بلا تاخیر کرنا، کوئی کام کرنے میں جلدی کرنا۔ ــ ہ ب: پر (دشمن) سے حملہ کرنا، کسی چیز سے کسی کو مخاطب کرنا، کو مارنا، پر چڑھ دوڑنا، بوچھاڑ کرنا، یکا یک آلینا۔ مثلاً بــادره بـکـلام غـلـیـظ: کو بدتمیزی سے دوٹوک جواب دینا۔ ــ اِلی: کا ردعمل ہونا، کا نتیجہ ہونا، کا اثر ہونا، سے متاثر ہونا۔ بـادر إلـی انـجـاز الوعد: وعدہ پورا کرنے میں جلدی کرنا۔ تَبَــادَرَ اِلــی الذهن: خیال آنا، واضح ہونا۔ ــ أن: پہلی اچٹتی ہوئی نظر ڈالنے پر لگنا جیسے: تـبـادر الـی ذهـنـی أن: مجھے اچانک خیال آیا کہ...... ـ تـبـادر الی الفهـم: فوری طور پر سمجھ میں آنا۔ اِبْــتَدَرَ ہ: کسی جگہ جلدی جانا۔ ـــــ ہ: کے آگے ہونا، کی پیش بندی کرنا۔ ابتدرها قائلا: اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ سکتی وہ پکار اٹھا۔ بَدَرَاتُ الاموال: بڑی بڑی رقوم۔ بــادِرَة جمع بَــوَادِر: نقیب، پیش خیمہ، پیش رو، مستقبل کی نشاندہی کرنے والی چیز، پہلی علامت، نشانی یا دلیل، غیر متوقع یا نا معلوم عمل، غصہ وغیرہ کی ہیجان خیز لہر یا دورہ، غلطی۔ بَــوَادِر: تحریکیں، لہریں، ترنگیں، جذبے۔ بــادرة خـیـر: اچھی یا فیاضانہ لہر، ترنگ یا من کی موج۔

○ بدروم و بلدرون جمع بـدرومات: تہ خانہ (ترکی لفظ)۔

بدع: ۱۔ بَدَعَ ـ بَدْعًا الشـیءَ: کو ایجاد کرنا، بغیر نمونہ بنانا۔ ـــ ہ: کو شروع کرنا، کی ابتدا کرنا، بنانا، وجود میں لانا، پیدا کرنا۔ بَدُعَ ـ بَدْعًا و بَدَاعَةً و بُدُوعًا: لاثانی ہونا، بے مثل ہونا۔ أَبْدَعَ و اِبْتَدَعَ الشـیءَ: کو وجود میں لانا، بنانا، پیدا کرنا۔ تَبَدَّعَ: بدعتی ہونا۔ اِسْتَبْــدَعَ الشـــیءَ: کو عجیب و نادر سمجھنا۔ البِدْع جمع أَبْدَاع و بُدُع: انوکھا، نا تجربہ کار (کہا جاتا ہے: فـلانٌ بـدع فـی الامر: فلاں شخص نے اس کام کو پہلی بار کیا)۔ ـــ من الرجال: ناواقف، جو امور کو نہ آزماتا ہو۔ البِدْعَة جمع بِدَع: چیز جو کسی سابق مثال کے بغیر بنائی جائے۔ (مذہب میں: نئی رسم)۔ البَدِیع: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک (کہا جاتا ہے: الـلّٰه بدیع السماوات و الارض: اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے)، انوکھی چیز، انوکھی چیز بنانے والا۔ الإبْــــداع والابتــداع: (دانا لوگوں کے نزدیک) ایسی چیز کو وجود میں لانا ہے، جو مادہ اور زمانہ کے لحاظ سے بے مثل ہو۔

۲۔ بَدَّعَهُ: کو بدعتی ٹھہرانا۔ أَبْدَعَ و اِبْتَدَعَ الرجلُ: بدعت کا مرتکب ہونا۔ البِدْعة جمع بِدَع: نیا مخالف ایمان عقیدہ۔ المُبْتَدِعُون: بدعتی لوگ۔

۳۔ اَبْدَعَ: کسی کام کو عمدگی سے کرنا۔ عـلـم البدیع: وہ علم جس سے کلام کی لفظی و معنوی خوبیاں معلوم ہوں۔

۴۔ اِسْتَبْدَعَ الشیءَ: کو عجیب و نادر سمجھنا۔ البِدع: تعجب۔ کہا جاتا ہے: لابـدع مـن ذلك: اس بات سے کوئی تعجب نہیں۔

۵۔ أَبْدَعَ به: کو بے مدد چھوڑ دینا۔ البَدِیع: موٹا، نئی مشک۔

○ بَدَعَ ـ بَدْعًا ہ: کو متعارف کرانا، وجود میں لانا، شروع کرنا، پہلی دفعہ کرنا، کوئی کام پہلی دفعہ کرانے والا ہونا، ایجاد کرنا۔ بَــدَّعَ ہ: کو بدعتی ہونے سے متہم کرنا، پر مسیحی عقائد کے خلاف اور خلاف شرع ہونے کا الزام لگانا۔ أَبْــدَعَ ہ: کو متعارف کرانا، وجود میں لانا، پہلی دفعہ کرنا، ایجاد کرنا، کو سب سے پہلے کرنے والا ہونا، کو پیدا کرنا، کی تخلیق کرنا۔ ـــ فی: میں بے مثال اور عمدہ نتائج حاصل کرنا، میں ممتاز اور حیران کن ہونا۔ اِبْتَــــدَعَ ہ: کو ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ اِسْتَبْــدَعَ ہ: کو بے مثل سمجھنا، انوکھا یا نادر سمجھنا۔ بَــدْع: نیا خیال، نیا طریقہ، نئی چیز، نئی بات، انوکھا ہونا، نرالی چیز، تخلیق۔ بَـدْعًــا و عَـوداً: بار بار۔ بِــدع جمع ابــداع: نیا خیال رائج کرنے والا، نئی بات پیدا کرنے والا، نیا، اصلی، بے مثل، بے نظیر، فقید المثال، انوکھا، نرالا، عجیب۔ لابــدع: کوئی تعجب نہیں۔ لابــدع أن: کوئی تعجب نہیں کہ۔ بــدعٌ مــن: کے علاوہ کوئی چیز، سے مختلف۔ بِــدْعَة جمع بِــدَع: نیا خیال، نیا طریقہ، نئی چیز، نئی بات، انوکھی چیز، انوکھی بات، عجیب شئے، انوکھا پن، بدعتی یا ملحدانہ عقیدہ، بدعت، کفر، جمع (فیشن، فن کی) تخلیقات۔ اهــل و البِــدَع: ملحد لوگ، بدعتی لوگ، مذہب کے مسلمہ عقائد کے مخالفین۔ بـدیع: بے نظیر، بے مثل، انوکھا، نرالا، نادر، عجیب، مافوق العادت، تعجب خیز، حیرت انگیز، قابل تعریف، لاثانی، خالق۔ علم البدیع: کنایوں، استعاروں اور تشبیہوں کا فن یا علم (عام طور پر) عمدہ اسلوب کا فن یا علم۔ بَدیعَة جمع بَدائع: حیران کن اور تعجب انگیز چیز، عجیب و غریب چیز، حیرت انگیز واقعہ، عجوبہ، حیرت انگیز نمونہ، حیرت، تعجب، اچنبھا، معجزہ، حیرت انگیزی، ابتدائی تخلیق۔ بَدیعی: خطیبانہ، فصیح و بلیغ، پر جوش، ولولہ انگیز۔ أَبْــدَع: زیادہ تعجب انگیز، زیادہ حیران کن، زیادہ عجیب و غریب، زیادہ غیر معمولی، زیادہ جدت، اختراع یا اصلیت کا حامل۔ اِبْــداع: تخلیق، ڈھالنا، متشکل کرنا، صورت گری، حیرت انگیز اور یکتائے روزگار کامیابی، منفرد یا بے مثل ہونا، انوکھا پن، یکتائی، تخلیقی قوت، تخلیقی صلاحیت۔ اِبْدَاعی: رومانی یا تخیلی (ادب)۔ اِبْــدَاعِیة: رومانی طرز تحریر، رومانیت۔ مُبْــدِع: تیار کرنے والا، تخلیق کرنے والا، تخلیقی، خالق، استثنائی، غیر معمولی، منفرد، بے مثال، فقید المثال، ممتاز (فن کار وغیرہ)۔ مُبْتَــدِع: نیا خیال رائج کرنے والا، نئی بات پیدا کرنے والا، خالق، کافر، بدعتی۔

بدغ: بَدِغَ ـ بَدَغًا: زمین پر گھسٹنا۔ ـــ بالشرّ او بــالاقـذار: برائی یا گندگی سے آلودہ ہونا۔ بَدَغَ ـ بَدْغًا الجوزَ او اللوز: اخروٹ یا بادام توڑنا۔

بدل: بَدَلَ ـ بَدْلاً الشیءَ: کو بدلنا، کو بدلہ میں لینا۔ اَبْدَلَ الشـیءَ منه: کو سے بدلہ میں لینا۔ بَدَّلَهُ: کو بدلنا۔ ـ الشیءَ منه: کو سے بدلہ میں لینا۔ ـ الشیءَ شیأً آخر: کو دوسری چیز سے بدل دینا۔ کہا جاتا ہے: بَدَّلَ الـلّٰه الخوف امْناً: اللہ تعالیٰ نے خوف کو امن سے بدل دیا۔ بَادَلَـهُ بکذا: کو کے تبادلہ میں دینا۔ تَبَدَّلاَ و تَبَادَلاَ ثوبیهما: دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے کپڑوں کے بدلے دوسرے کے کپڑے لئے۔ تَبَدَّلَ: بدل جانا، متغیر ہونا۔ ـ ہ بکذا: کو کی جگہ، کے بدلہ میں لینا۔ جیسے: تبدلت الدارُ بأُنْسها وحشاً: گھر کی انسیت وحشت سے بدل گئی۔ اِسْتَبْدَلَهُ بکذا: کو کی جگہ لینا، کو کے بدلہ میں لینا۔ البِدْل و البَدَل و البَدِیل جمع أَبْدَال و بُدَلاَء: بدلہ، عوض، جانشین۔ الأَبْدَال: لوگوں کی رائے میں وہ صالح لوگ جن سے دنیا کبھی خالی نہیں رہتی جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی جگہ دوسرے کو قائم مقام بنا دیتا ہے۔

۲۔ بَدِلَ ـ بَدَلاً: ہڈیوں یا جوڑوں میں درد والا ہونا۔ البَدَل (طب): جوڑوں، ہاتھوں یا ہڈیوں کا درد۔ اسی سے ہے: رُبَّ بَدَلٍ شرٌ من بَدَل: بہت سے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عوارض ہڈی کے درد سے زیادہ برے ہیں۔

۳۔ البَدْل و البَدَل و البَدِیل جمع اَبْدَال و بُدَلاء: فیاض، شریف۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ بَدْلٌ و بَدَلٌ: مرد شریف۔ البَدْلَة: کپڑوں کا جوڑا۔ البَدَّال: کھانے کی چیزیں بیچنے والا، عام لوگ اسے بقّال کہتے ہیں۔

○ بَدَلَ ـُ ہ ب: کوکی جگہ لینا یا رکھنا، کو سے بدلنا، ادلا بدل کرنا۔ بَدَّلَ ہ: کو میں تبدیل کرنا۔ ــــ ہ ب ــ: کوکی جگہ رکھنا، کو کا قائم مقام بنانا، کو سے بدلنا، کو کے بدلہ میں دینا۔ ــــ ہ: کو بدلنا، تبدیل کرنا۔ بَادَلَ ہ: کے ساتھ کوئی چیز ادلا بدلی کرنا۔ اَبْدَلَ ہ ب: کوکی جگہ لینا یا رکھنا، کے بدلہ میں کوئی اور چیز دینا۔ ــــ ب ہ: کو کے عوض کوئی دوسری چیز دینا۔ ــــ ہ ہ ب: کو کوئی چیز کسی چیز کے بدلہ میں دینا۔ تَبَدَّلَ: تبدیل ہونا، ادلا بدلی ہونا۔ تَبَادَلَ ہ: کا تبادلہ کرنا (جیسے لفظوں، خیالات، تہنیت کا)۔ اِسْتَبْدَلَ ہ ب/ب ہ: کو سے بدلنا، کو کے بدلہ میں لینا، کا سے تبادلہ کرنا، چیز کے بدلے چیز کا لین دینا کرنا، مبادلہ کرنا، کوکی جگہ لینا یا رکھنا، کو کا قائم مقام بنانا۔ بَدَل جمع اَبْدَال: بدل، قائم مقام، قائم مقامی، جانشینی، عوضی، ہم پلہ، ہم قیمت، ہم پایہ، معاوضہ، بدلہ، عوض، پاسنگ، ادائیگی، تلافی، بے باقی، ہرجانہ، الاؤنس، وظیفہ، قیمت، شرح، گرامر: بدل۔ بدلُ الجِرَایة: خوراک کے لئے وظیفہ۔ بدلُ السَفَرِیَة: سفری الاؤنس۔ بدلُ الاشتراك: چندہ۔ بدل التمثیل: خرچ الاؤنس۔ بَدَلَ: کے عوض، کے بجائے، کی جگہ، کے بدلہ میں۔ بَدَلاً مِن: کی جگہ، کے عوض کے بدلہ میں۔ بَدْلَة جمع بَدَلات و بِدَل: (کپڑوں کا) جوڑا، پوشاک، لباس، پہناوا۔ بدلةُ الحَمَّام: غسل کا لباس۔ بدلة رَسْمِیَّة: یونیفارم، وردی۔ بدلة تشریفاتیة: فل ڈریس یونیفارم۔ بَدَلِیَة: معاوضہ۔ بَدَالَ: کے بجائے۔ بَدَالَ مَا: (ہونے کرنے وغیرہ) کے بجائے۔ بَدِیل جمع بُدَلاء مِن/عن: کا بدل، قائم مقام مونث: بدیلة۔ مَفْرَزَةٌ بَدِیلَةٌ: فوج کا ریزرو دستہ۔ بَدَّال: پنساری، کریانہ فروش، ریزگاری فراہم کرنے والا۔ بَدَالَة: زمین دوز بدرو، نظام ہمرسانی، ٹیلیفون ایکسچینج سنٹرال۔ مُبَادَلَة جمع مُبَادَلات: ایکسچینج و حصص مارکیٹ۔ مبادلات تجاریة: تجارتی مبادلہ، تجارتی تعلقات۔ تبادل: باہمی مبادلہ۔ تبادل السلام: تہنیات کا تبادلہ۔ تبادل الخواطر: تبدیلیء خیالات، ٹیلی پیتھی telepathy۔ مُبَدِّل الاسطوانات: خودکار ریکارڈ بدلنے والا آلہ automatic record changer۔ متبادل: باہمی، باہدگر، مشترک، مشترک۔

بدن: ۱۔ بَدَنَ ـُ بَدْنًا و بُدْنًا و بُدُونًا و بَدُنَ ـُ بَدَانَةً و بَدَانًا: فربہ بدن ہونا، موٹے بدن والا ہونا، صفت مذکر بادِن صفت مونث: بادن و بادنة جمع بُدَّن و بَدِین جمع بُدْن۔ البَدَن جمع اَبْدان: جسم۔ البَدَنة: فربہ بدن اونٹنی یا گائے۔ المِبدان و المُبَدَّن: فربہ، موٹا، موٹے جسم والا۔

۲۔ بَدَّنَ: بڑی عمر والا ہونا۔

۳۔ بَدَّنَهُ: کو زرہ پہنانا۔ البَدَن جمع بُدُون: چھوٹی زرہ۔ البَدَنَة: عورتوں کی آستین کے بغیر قمیض۔

○ بَدَن جمع اَبْدَان و اَبْدُن: جسم، تن، دھڑ۔ بَدَنِی: جسمانی، مجسم، جسمی۔ بَدِین جمع بُدْن: مضبوط، قوی، شہ زور، موٹا، فربہ، جسیم، موٹا تازہ، توندل، توند والا، لحیم شحیم۔ بُدُونه: فربہی، موٹاپا، ڈیل ڈول۔ بادِن جمع بُدْن: مضبوط، قوی، موٹا، فربہ، جسیم۔

بده: ۱۔ بَدَهَ ـَ بَدْهًا و بَادَهَ الرجلَ: کے پاس اچانک آنا صفت مذکر: بادِہ صفت مؤنث: بادِهَة جمع بَوَادِہ۔ البُداهَة و البَداهَة: بیساختگی، اچانک یا بے خبری میں جالینا۔ البَدِیهة جمع بدَائِہ: اچانک یا بے خبری میں جالینا، بیساختگی۔ المِبْدَہ: اچانک، غیر متوقع، اچانک یا بے خبری میں جالینے والا۔

۲۔ تَبَادَهوا الشعرَ او الخُطَبَ: بلا تامل و فکر باہم شعر پڑھنا یا تقریر کرنا۔ اِبْتَدَہَ الخطبةَ: بلا تامل و فکر تقریر کرنا صفت: مُبْتَدِہ و مِبْدَہ۔ بدیهاً و علی البدیهة: بے سوچے، بلا توقف۔ البَدِیهة جمع بَدَائه: طویل غور و خوض کا فقدان۔ کہا جاتا ہے: اجاب علی البدیهة: اس نے غور و فکر کے بغیر جواب دیا۔ هذا معلوم فی بَدَائِهِ العقول: یہ تو بغیر سوچے سمجھ میں آتا ہے۔ لفلان بدائه فی الکلام: فلاں کی گفتگو عجیب و غریب ہے۔ فلانٌ ذو بدیهة: فلاں شخص اپنے سپرد کیا جانے والا کام فوراً سمجھ جاتا ہے۔ البَدِیهی: فوری۔ المِبْدَہ: فی البدیہ بولنے والا، تقریر کرنے والا۔

۳۔ البُداهَة و البَداهة: ہر شئے کا اول، شروع۔ کہا جاتا ہے: لَقِیتُهٗ فی بداهة جَرْیِهٖ: وہ دوڑنے کے شروع ہی میں اس سے جاملا۔ البَدِیهی: عقل کی نظر میں ضروری۔ البدیهیات (عند العلماء): مسلمات، اولیات، صاف سچائیاں۔

○ بَدَہَ ـَ بَدْهًا ہ: کے پاس اچانک آجانا، پر اچانک آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا؛ غیر متوقع طور پر واقع ہونا۔ ــــ ہ ب: کو سے حیران کر دینا، بھونچکا کر دینا۔ بَادَہَ ہ ب: کے سامنے کیساتھ اچانک آنا یا غیر متوقع طور پر آنا۔ اِبْتَدَہَ ہ: کو برجستہ کرنا، فی البدیہ (شعر وغیرہ) کہنا، (نغمہ سرائی وغیرہ) کرنا، (تقریر وغیرہ) کرنا، کو تیاری کے بغیر یا بیساختہ کرنا، کو وہیں، جھٹ، یا وقتی جذبے کے تحت کرنا۔ بَدَاهَة: بیساختگی، آپ سے آپ، اپنے آپ یا خود بخود یا بیساختہ وقوع، تحریک، لہر، ترنگ، جذبہ، سادہ طبعی طریقہ، حقیقی پن، قدرتی پن، برجستگی، بے ساختگی، کام کی بات۔ بَدَاهَةً و بالبداهة: آپ سے آپ، اپنے آپ، خود بخود، بیساختگی سے۔ بَدِیهَة: کوئی اچانک یا غیر متوقع چیز، وہیں بنا دینا، تحریک، جذبہ، لہر، ترنگ، تخلیقی تحریک، بیساختہ وجدان، وجدانی فہم یا بصیرت، فطری یا جبلی ادراک یا وسعت نظر، عقلی یا شعوری صلاحیت۔ علی البدیهة: برجستگی سے، خود بخود، بیساختہ، تیاری کے بغیر۔ حاضر البدیهة: زود فہم، حاضر جواب۔ بدهةٌ حاضرة: ہوشمندی۔ بَدِیهی و بَدَهِی: وجدانی، صاف، ظاہر، بدیہی۔ بَدِیهِیَّة جمع بدیهیات: بدیہیات یا اولیات میں سے ایک ایک بدیہی، بنیادی، صاف سچائی، پیش یا افتادہ، حقیقت، عام بات جو ہر ایک جانتا ہو، فرسودہ صداقت۔ بَدَائِہ: بنیادی یا صاف سچائیاں۔

بدا: ۱۔ بَدَا ـُ بُدُوًّا و بَدَاءً و بَدْوًا و بَدَاءَةً: ظاہر ہونا صفت: بادٍ جمع بادُون و بُدًّی و بُدَّی۔ بَادَی ہُ: کو واضح کرنا، کے آثار ظاہر کرنا۔ ــــ بالعداوة: دشمنی ظاہر کرنا۔ اَبْدَی الأمرَ: کو ظاہر کرنا، تَبَدَّی: ظاہر ہونا۔ تبادی القوم بالعداوة: دشمنی ظاہر کرنا۔ بَدَاوَةُ الامر: معاملہ کا سب سے پہلے ظاہر ہونے والا حصہ۔

۲۔ بَدَا ـُ بُدُوًّا و بَدَاءً و بَدْوًا و بَدَاءَةً له فی امر: کے بارے میں رائے سوجھنا۔ البَدَاءة جمع بَدَوات: رائے۔ البدوات: مختلف آراء۔

۳۔ بَدَا ـُ بَدَاوَةً و بِدَاوَةً و تَبَدَّی: صحرا کی طرف نکل جانا، بادیہ میں اقامت کرنا، بدوی ہونا۔ تَبَادَی: بادیہ نشینوں سے مشابہ ہونا۔ البَدْو: خانہ بدوش عرب قبائل، بدو کی طرف نسبت کیلئے: بَدَوِی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بَدَوِیّ مونث بدویة جمع بَدَاوِی۔ البَادِیة و البَدَاوَة جمع بَادِیات و بَوَاد: صحراء، جنگل۔

۴۔ بَادَاهُ: سے مقابلہ کرنا۔

۵۔ أبدٰی فی کلامه: اپنے کلام میں فریادرسی چاہنا۔ کہا جاتا ہے: ابدیتَ فی منطقكَ. تونے اپنی گفتگو میں فریادرسی چاہی، اسی سے ہے: السلطان دو عدوان و دو بَدَوان سلطان لوگوں کے خلاف جارحیت کرتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے۔

۶۔ البَدْوَة: وادی کا کنارہ۔ البَدَاة جمع بَدَوات: کھمبی، مٹی۔

○ بدو: بَدَا ۔ بُدُوّاً: دکھائی دینا، نظر آنا، عیاں ہونا، ظاہر ہونا، صاف ہونا، واضح ہونا، آشکار ہونا، معلوم ہونا، پتہ چلنا۔ ـ ل: کو اچھا، قابل قبول یا مناسب معلوم ہونا۔ بادی: دکھانا، ظاہر کرنا، کا ثبوت دینا، انکشاف کرنا، کھلم کھلا اعلان کرنا۔ بَادَی بالعداوة: کھلی دشمنی دکھانا۔ أبدٰی ه: کو افشا کرنا، منظر عام پر لانا، واضح کرنا، ظاہر کرنا، کا انکشاف کرنا، دکھانا، کا ثبوت دینا، کی توضیح کرنا، کا اظہار کرنا، فاش کرنا، آشکارا کرنا، بیان کرنا، غصہ سے کہنا۔ ابدی رایه فی: کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ أبدٰی رغبةً: خواہش یا آرزو ظاہر کرنا۔ تَبَدّی: بمعنی (بدا یبدو) نیز: صحرا میں رہنا۔ تَبادَی: اپنے آپ کو بدو ظاہر کرنا۔ بَدْو: صحراء، خانہ بدوش، بدوی لوگ۔ بَدَوِی: بدوی، خانہ بدوش، دیہاتی، بدو۔ بَدَوِیَّة جمع بدویات: بدو عورت، بدو لڑکی۔ بَدَاة جمع بَدَوات: لہر، موج، ترنگ، خیال، وہم، من کی موج، وسواس، گمان، تخیل کی جولانی، برا مذاق۔ بَدَاوَة و بِداوَة: صحرائی زندگی، بدوی زندگی، خانہ بدوشی، بدویت۔ بَیْداء: صحراء، سردیالق و دق صحراء، غیر آباد علاقے۔ إبداء: اظہار، اعلان، مظاہرہ، واضح بات، صاف اظہار۔ بادٍ: ظاہر، واضح، مرئی، جو دیکھا جا سکے، صحراء میں رہنے والا جمع بُدَاة: بدو لوگ۔ بادیة: صحراء، سردیالق و دق صحراء، نیم صحراء، کاشتکاروں کا طبقہ جمع بَوَادٍ: خانہ بدوش، بدو لوگ۔ بِدَایة: دیکھو بداءة۔

بَذّ: ۱۔ بَذّ ۔ بَذَذاً و بَذَاذاً و بَذَاذَةً و بُذُوذَةً: بدحال ہونا، شکستہ حال ہونا صفت: بَاذّ مونث بَذّ و بَذّة و بَاذّة کہا جاتا ہے: فلان بذّ الهیئة: فلاں شخص شکستہ حال ہے۔ بذّ البخت: بدبخت۔

۲۔ بَذّ ۔ ه: پر غالب آنا، فوقیت و برتری رکھنا۔ بَذّه: پر سبقت لیجانا، سے ناموری میں مقابلہ کرنا۔ البَذّ و البَذِیذ: مثل۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ فذٌّ بَذٌّ: یکتائے زمانہ شخص۔

۳۔ اِبْتَذّ منه حقّه: سے اپنا حق لینا۔

○ بَذّ ۔ بَذّاً ه: کا بہترین حصہ لینا، کو شکست دینا، سے بازی لیجانا، پر سبقت لیجانا، سے بڑھ جانا۔ بَذّ و باذّ: پھوہڑ، بے سلیقہ، گندا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، غلیظ، گھناونا، خستہ حال۔ بَذَاذَة: پھوہڑپن، بے سلیقگی، گندگی، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہونا، غلاظت۔

بذأ: ۱۔ بَذَأَ ۔ و بَذِئَ ۔ و بَذُؤَ ۔ بَذَاءً و بَذَاءَةً: فحش گو ہونا، بے وقوف ہونا صفت: بَذِیٔ۔ کہا جاتا ہے: أرضٌ بَذِیئَةٌ: گھاس نہ اگانے والی زمین۔ أبْذَأَ: فحش بکنا۔ بَاذَأَهُ: سے فحش کلامی کرنا۔ البَذَاءَة: فحاشی، زبان کی خرابی۔

۲۔ بَذَأَ ۔ بَذْأً الشیءَ: کو ناپسند کرنا۔ ـ الشخصَ و علی الشخص: کو حقیر جاننا، کی مذمت کرنا۔ بَاذَأَهُ: سے جھگڑنا۔

○ بَذَأَ ۔ بذأ علی: کو گالیاں دینا، کو کوسنے دینا، برا بھلا کہنا۔ بَذِئَ ۔ بَذُؤَ ۔: فحش ہونا، ناشائستہ ہونا، اخلاق سے گرا ہوا ہونا، بیہودہ ہونا، واہیات ہونا۔ بَذِیٔ: نفرت انگیز، قابل نفرت، کریہ، گھناونا، گندا، غلیظ، فحش، ناشائستہ، اخلاق سے گرا ہوا؛ بیہودہ، واہیات، بدزبان، کفر بکنے والا۔ بَذَاء و بَذَاءَة: فحاشی، فحش کلامی، بدزبانی، کفر بکنا، فحش اشارہ؛ زبان کی خرابی، کراہت، تنفر، نفرت، بیزاری، حقارت، ذلت، سبکی، توہین، تذلیل۔

بذح: بَذَحَ ۔ بَذْحاً ه: کو پھاڑنا، چیرنا۔ ـ الجلدَ عن العِرق: سے کھال ہٹانا۔ تَبَذّح السحابُ: بادل کا برسنا۔ البَذْح جمع بُذُوح: پھٹن۔ کہا جاتا ہے: فی رِجلِهِ بُذُوحٌ: اس کے پاؤں میں بوائی ہے۔ البِذْح: ہاتھ کی خراش۔

بذخ: بَذِخَ ۔ بَذَخاً و بَذَخَ ۔ بُذُخاً و بَذَخ ۔ بَذَاخَةً و تَبَذّخ: بلند ہونا، تکبر کرنا، بڑی شان والا ہونا صفت: بَاذِخ جمع بَوَاذِخ و بَذِیخ جمع بُذَخاء: متکبر بلند، کہا جاتا ہے: شرف باذِخ: شرف بلند۔ جبالٌ بَوَاذِخ: اونچے پہاڑ، بَاذَخَهُ: سے ناموری میں مقابلہ کرنا۔ البَذّاخ: متکبر۔

○ بَذَخ: غرور، تکبر، عیش و عشرت، ناز و نعمت، شان و شوکت، طمطراق، شان و شکوہ، احتشام، دھوم دھام۔

بذر: بَذَرَ ۔ بَذْراً الحَبَّ (ز): بیج بونا۔ ـ تِ الأرضُ: زمین کا نباتات اگانا۔ البَذْر جمع بُذُور و بِذار (ز): بیج، نسل، اولاد، کہا جاتا ہے: انه بذرُ سُوء: وہ بری نسل کا ہے۔

۲۔ بَذَرَ ۔ بَذْراً المالَ: مال فضول خرچی میں اڑانا۔ بَذّرَ المالَ: مال فضول خرچی میں اڑانا، صفت: بَذِر و تِبْذار و تِبذارَة۔ تَبَذّرَ و اِنْبَذَرَ: متفرق ہونا۔ بَذَر و بِذَر کہا جاتا ہے: ذهبوا شَذَر بَذَر و شِذَر بِذَر: وہ ہر طرف منتشر ہو گئے۔ البَذِر و البَیْذار و البَیْذَرة و التِبذار: فضول خرچی کرنے والا۔

۳۔ بَذَرَ ۔ بَذْراً العِلمَ: علم پھیلانا، علم کی اشاعت کرنا۔ البَذِر و البَیْذار و البَیْذارة و التِبذار: بہت باتونی۔ البَذُور و البَذِیر جمع بُذُر: چغل خور، راز نہ چھپا سکنے والا۔

۴۔ تَبَذّرَ الماءُ: پانی کا متغیر ہو کر پیلا پڑ جانا۔

۵۔ بَذْرَقَ: پاسبانی کرنا، حفاظت کرنا صفت: مُبَذْرِق۔ ـ المالَ: مال بکھیرنا، مال میں فضول خرچی و اسراف سے کام لینا۔ مُبَذْرِق: دربان، محافظ، راہبر۔

○ بَذَرَ ۔ بَذْراً ه: کوئی چیز بونا، (بیج) بونا، تخم ریزی کرنا، کوئی چیز بکھیرنا، کو شہرت دینا، مشتہر کرنا، کی اشاعت کرنا، کو پھیلانا۔ بَذّر ه: کو برباد کرنا، تباہ کرنا، پامال کرنا، ضائع کرنا، تلف کرنا، میں فضول خرچی کرنا، کو پھوڑپن سے استعمال کرنا، کو لٹانا، اڑا دینا، میں اسراف کرنا، کو منتشر کرنا، ضائع کرنا۔ بَذْر جمع بُذُور و بِذار: بیج، پنیری، جمع بُذُور: پھولوں کے گچھے کی کلیاں، گٹھلیاں۔ بَذْرَة: بیج، دانہ گلی، گٹھلی، جرثومہ، نقطۂ آغاز۔ بِذار: پودے کے بیج بونے کا وقت۔ تبذیر: مال اُڑانا، اسراف، فضول خرچی، عیاشی میں اڑانا۔ مُبَذِّر: فضول خرچی کرنے والا، مال اڑانے والا، عیاشی میں اڑانے والا، فضول خرچ۔

بذع: ۱۔ بَذَعَه ۔ بَذْعاً: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔ ابْذَعَه: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔

۲۔ بَذَعَ ۔ الاناءُ: برتن کا ٹپکنا۔ البَذْع: برتن سے ٹپکا ہوا پانی۔

بذق: البَاذَق و البَاذِق: قدرے پکا ہوا اور نشہ آور انگور کا شیرہ۔

بذل: ۱۔ بَذَلَ ۔ بَذْلاً الشیءَ: کو دینا، کی سخاوت کرنا۔ کہا جاتا ہے: بذل نفسه دونَ او عن فلان: اس نے فلاں شخص کی حمایت میں اپنی جان لٹا دی، اس نے اپنے آپ کو اس پہ فدا کر دیا۔ صفت: باذِل و بَذُول صفت مفعولی: مَبذول: ـ جُهدَه: اپنی پوری کوشش کرنا۔ البَذل: عطا

marfat.com
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

بخشش۔ رجلٌ بذلٌ: فیاض آدمی۔ البذّال و
المِبذال: بڑا فیاض، بہت داد و دہش کرنے والا۔
۲۔ بَذَلَ ـُ و ابتذل الثوب: کام کے وقت کپڑے
پہننا یا ہر روز کپڑے پہننا اور استعمال کر کے فرسودہ
کرنا۔ اِبْتَذَلَ: پرانے کپڑے پہننا۔ البِذلۃ من
الثیاب: روزانہ پہننے کے کپڑے۔ المِبذَل و
المِبذَلۃ جمع مَبَاذِل: روزانہ پہننے کے کپڑے، پھٹا
پرانا کپڑا۔ کہا جاتا ہے: جاء فلان فی مباذِلہ:
فلاں شخص اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا۔
مُبْتَذَل: کثیر الاستعمال۔ کہا جاتا ہے: کلام
مُبتَذَل: ردی رکیک کلام، گھٹیا کلام، کثیر الاستعمال
کلام۔ سیفٌ صدقُ المُبتذَل: تیز دھار والی
تلوار۔
۳۔ تَبَذَّلَ و ابْتَذَلَ: وقار سے گرا ہوا ہونا، چھچھورا ہونا۔
○ بَذَلَ ـُ بَذْلاً ہ: کو آزادی یا سخاوت سے دینا یا خرچ
کرنا، کی قربانی دینا، کو خرچ کرنا، صرف کرنا، پیش کرنا،
عطا کرنا۔ بَذَلَ جُهْدَهُ: (کسی کام میں) بڑی محنت
اور کوشش کرنا۔ بَذَلَ مَجْهُوْدَهُ: (کسی کام میں)
بڑی محنت اور کوشش کرنا۔ بَذَلَ کلَّ مُساعَدَۃٍ:
ہر امداد دینا۔ بَذَلَ المساعی: کوششیں کرنا۔
بَذَلَ الطاعۃَ لِ: کا حکم ماننا، کا پاس لحاظ کرنا۔ بَذَلَ
کلَّ غالٍ و بَذَلَ الغالی و الرخیص فی سبیل
۔۔: کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرنا، ہر طرح کی
کوشش کرنا، ہر قیمت ادا کرنا۔ بَذَلَ ماءَ وجهِہ:
اپنی عزت داؤ پر لگانا۔ بَذَلَ نفسہ دون فلان یا
عن فلانٍ: کے لئے اپنا آپ قربان کر دینا۔ بَذَلَ
وُسْعَهُ: مقدور بھر کوشش کرنا۔ تَبَذَّلَ: اپنی دولت
اُجاڑ دینا، ضرورت سے زیادہ سخاوت کرنا، (عورت
کا) عصمت فروشی کرنا، عام بازاری اخلاق کا مظاہرہ
کرنا۔ اِبْتَذَلَ ہ: کو عام خدمت میں خستہ کر دینا،
پرانا کرنا، سوقیانہ کرنا، (پامال مضامین) پر گفتگو کرنا، کی
حیثیت بگاڑ دینا، کو بے وقعت کرنا، کا غلط استعمال
کرنا۔ ــــ: بازاری انداز میں اظہار خیال کرنا،
بازاری زبان استعمال کرنا۔ ابتذل نفسہ: خود کو
ذلیل کرنا، خوار کرنا، اپنی منزلت کی قربانی دینا۔ بَذْل:
دینا، خرچ کرنا، قربانی، اطاعت، دست برداری،
خرچ، پیش کرنا، عطا کرنا۔ بَذْلَۃ: کپڑوں کا جوڑا۔
مِبْذَل جمع مَبَاذِل: سلیپر۔ مَبَاذِل: گھر میں پہننے
کے کپڑے۔ فلانٌ فی مَبَاذِلِہ: فلاں شخص اپنی نجی
زندگی میں۔ اِبْتِذَال: فرسودگی، عامیانہ پن،
عوامیت، عمومیت، کھلی ہوئی حقیقت، پیش پا افتادہ امر،
معمولی بات، سبکی، بے قدری، رسوائی، ذلت، خفت،
تنزل۔ باذِل: خرچ کرنے والا۔ مبتَذِل:
بازاری، سوقیانہ، عام۔ مُبتَذَل: دیرینہ، پرانا،
فرسودہ، پامال، بے وقعت، بالکل عیاں، پیش پا افتادہ،
معمولی، بازاری، سوقیانہ، روزمرہ۔

بذم: بَذُمَ ـُ بَذَامَۃً: دور اندیش ہونا اور اپنی رائے پر
پختگی کے ساتھ جم جانا صفت: بذیم البُذْم:
دور اندیشی، مال اندیشی، قوت، طاقت، رائے کی
عمدگی، مروت۔ المِبْذَم: مضبوط اونٹنی۔

بذا: بَذَا ـُ بَذْوًا و اَبْذَی ابذاءً علیہ: سے بدزبانی
کرنا، فحش کلامی کرنا۔ بَذُوَ ـُ بَذَاءً و بَذَاءَۃً: فحش
گو ہونا صفت: بَذِیّ جمع اَبْذِیاء مونث بَذِیَّۃ:
البَذَاء: بیہودہ و ناشائستہ کلام۔

بَرّ: ۱۔ بَرَّ ـِ بِرًّا و بَرَرَۃً و بُرُورًا خالقَہُ: اپنے
خالق کی اطاعت کرنا۔ بَرَّ ـَ بِرًّا و مَبَرَّۃً والدَہُ:
اپنے والد کی اطاعت کرنا، سے حسن سلوک کرنا، خوش
معاملگی سے پیش آنا صفت: بَرٌّ جمع اَبْرار و بارّ
جمع بَرَرَۃ۔ تَبَرَّرَ: نیک و صالح ہونا۔ ــــ ہ: کی
اطاعت کرنا۔ البَرّ جمع بُرور: نیک اطوار، بھلائی
کرنے والا، بڑا نیک، سچا۔ البِرّ: اطاعت۔
۲۔ بَرَّ ـَ بَرًّا و بِرًّا و بَرَارَۃً و بُرُورًا فی قولہ: سچ
بولنا۔ ــــ ت الیمینُ: قسم کا سچا ہونا۔ اَبَرَّ
الیمینَ: قسم پوری کر دینا۔ البَرّ: سچا، اللہ تعالیٰ
کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک۔ البِرّ: سچائی،
صلاحیت۔ البَرّ و البارّ جمع اَبْرار و بَرَرَۃ: نیک
اطوار، بھلائی کرنے والا، بہت سچ بولنے والا، سچا۔
اَبَرّ: اسم تفضیل (زیادہ نیک، زیادہ فیاض، زیادہ دور،
صحرا میں رہنے والا)۔ اصلحُ العرب اَبَرُّهم:
عرب کا فصیح وہی بدوی ہے جو شہر سے دور رہتا ہے۔
المَبْرُور من الافعال: وہ فعل جو شبہ، جھوٹ
اور خیانت سے پاک ہو۔
۳۔ بَرَّ ـُ اللہ الصلاۃَ: اللہ تعالیٰ کا نماز کو قبول کرنا۔ ــــ
ت الصلاۃُ: نماز کا قبول ہونا۔ اَبَرَّ اللہُ حُجَّتَہٗ:
اللہ تعالیٰ کا کسی کی حجت قبول کرنا۔
۴۔ بَرَّ ـِ بِرًّا: اچھے کام کرنا۔ بارَّہ: سے حسن سلوک
سے پیش آنا، مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ بَرَّرَہٗ: کو پاک
کرنا۔ ــــ ہ: کو نیک اطوار ٹھہرانا۔ تَبَرَّرَ: اپنی
نیکی سے اظہار کا ارادہ کرنا۔ تَبَارَّ القومُ: لوگوں کا
ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا۔ البِرّ: عطیہ،
مہربانی، شفقت۔ البُرّی: اچھی بات۔ المَبَرَّۃ
[illegible]
۵۔ اَبَرَّ علیہ: پر غالب ہونا، فائق ہونا۔
۶۔ اَبَرَّ: خشکی کا سفر کرنا۔ اِبْتَرَّ: ساتھیوں سے کنارہ
کشی کرنا اور یکسو ہونا۔ البَرّ جمع بُرور: خشکی
(خشک زمین)۔ کہا جاتا ہے: جَلَسْتُ بَرًّا: میں
گھر کے باہر بیٹھا۔ خَرَجَ بَرًّا: وہ صحرا اور بیابان
کی طرف نکلا۔ اُرِیدُ جَوًّا و یُرِیدُ بَرًّا: میں
پوشیدگی چاہتا ہوں اور وہ علانیہ کا خواہاں ہے (یہ کوئی
قدیم محاورہ نہیں)۔ البَرّی: زمینی، خشکی کا (بحری کی
ضد)۔ (ح): جنگلی وحشی جانور (اہلی پالتو کے مقابلہ
میں)۔ (ن): جنگلی نباتات (بستانی کے مقابل)۔
البَرِّیَّۃ جمع بَرارِی: صحراء۔ البَرِّیت جمع
بَرَارِیت: جنگل، بیابان۔ البَرّانی (خلاف
جَوّانی): ظاہر، بیرونی۔ من اَصْلَحَ جَوّانِیَّتَہٗ
اصلح اللہ بَرّانِیَّتَہٗ: جو اپنے باطن کو ٹھیک کرے گا
اللہ اس کے ظاہر کو درست کر دے گا۔
البرمانی: دیکھو "برم"
۷۔ البُرّ جمع اَبْرار و بُرَرَۃ واحد بُرَّۃ: گندم، گیہوں۔
○ بَرَّ ـَ بِرًّا: بزرگوں کا ادب کرنے والا ہونا، فرض
شناس ہونا، وفادار ہونا، جانثار ہونا، فدا ہونا، قربان
ہونا۔ ــــ ہ/ب: پر مہربان ہونا، فیاض ہونا، کرم فرما
ہونا، سے اچھا سلوک کرنا۔ ــــ ہ: کا (خصوصاً اللہ
تعالیٰ کا) حکم ماننا۔ ــــ ہ/ب: والدین سے احترام
سے پیش آنا، والدین کا ادب کرنا۔ ــــ: دیانت دار
ہونا، راست باز ہونا، راست گو ہونا، حق گو ہونا، صادق
ہونا، (حلفیہ بیان کا) صحیح ہونا، سچا ہونا، ضابطہ کے
مطابق اور قانوناً مکمل ہونا۔ ــــ ب: (وعدہ، قسم) پورا
کرنا۔ بَرَّرَ: وجہ جواز ہونا، کا جواز پیش کرنا، توجیہ
کرنا، کا جواز ہونا، کی جائز وجہ ہونا، کی برأت کرنا، کو
بیگناہ ثابت کرنا۔ ــــ ہ/ ہ: کو بری کرنا، بری الذمہ
قرار دینا، کی گلو خلاصی کرنا، کو چھٹکارا دلانا، کی رسمی
کارروائی پوری کرنا۔ بَرَّرَ وَجْهَهُ ب: کے ذریعے
جواز پیش کرنا، کی سے توجیہ کرنا۔ اَبَرَّ ہ: (وعدہ، قسم
وغیرہ) پوری کرنا۔ تَبَرُّر: جائز وجہ ہونا، حق بجانب
ہونا۔ بِرّ: تعظیم، پارسائی، تقویٰ، زہد و اتقاء، نیکی،
دیانتداری، خدا پرستی، صدق، اخلاص، مہربانی، خیراتی
تحفہ۔ بَرّ و بارّ جمع اَبرار و بَرَرَۃ: بزرگوں کا
ادب کرنے والا، نیک، خدا پرست، راست باز،
متدین، متقی صالح، نیکوکار، مہربان، شفیق۔ ــــ ب:
کے بارے میں فرض شناس، کے لئے وقف شدہ، نذر

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

شدہ۔ مَبَرَّۃ جمع مَبَرَّات و مَبَارّ: نیکی، سخاوت، عطیہ، خیرات، خیراتی تنظیم یا ادارہ، گھر یا ہسپتال جو نجی مالی وسائل سے قائم کیا گیا ہو۔ تبریر: جواز، توجیہ، بیگناہی کا ثبوت۔ برأت۔ بارّ: بزرگوں کا احترام کرنے والا، ایماندار، جانثار، وفا شعار، وقف وفا۔ مَبْرُور: اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقبول، مقدس (متوفی)۔ مُبَرِّر جمع مُبَرِّرات: جواز، توجیہ، عذر، معذرت، اعتزار)۔ لا مُبَرِّر لہ: جس کا کوئی جواز نہ ہو، جس کا کوئی جواز پیش نہ کیا جا سکے۔

○ بَرّ: زمین (خشکی سمندر کے مقابلہ میں) خشکی کا بڑا ٹکڑا، کھلا علاقہ۔ بَرًّا: باہر، دُور، بیرونی۔ بَرًّا و بحرًا: بذریعہ خشکی و سمندر، خشکی اور سمندر کے راستہ سے۔ بَرِّی: زمینی، جنگلی (پودے اور جانور)۔ سیارۃ برّیۃ مائیۃ: جل بھوی، گاڑی جو خشکی اور تری میں چل سکے۔ بَرِّیَۃ جمع بَرَارِی: کھلا علاقہ، صحراء، بیابان، لق ودق صحراء۔ بَرَّانِی: بیرونی، غیر ملکی، پردیسی۔ بُرّ: گیہوں، گندم۔

برا: بَرَأَ ـ بَرْءًا و بُرُوءًا ہ: کو عدم سے پیدا کرنا۔ البارئ: خالق تعالیٰ وتسائی۔ البَرِیَّۃ جمع بَرَایا: مخلوق۔

۲۔ بَرِئَ ـ بَرَأَ ـ و بَرُؤَ ـ بَرْءًا و بُرْءًا و بُرُوءًا من المرضَ: بیماری سے صحت یاب ہونا۔ اَبْرَأَ المریضَ: بیمار کو صحت یاب کرنا۔ البارِئ: صحت یاب شخص جس میں نقاہت ابھی باقی ہو۔

۳۔ بَرِئَ ـ بُرُوءًا و بَرَاءَۃً: عیب و قرض سے نجات وخلاصی پانا۔ بَرَّأَہٗ تَبْرِئَۃً: کو بری کرنا۔ ـــ من التہمۃ: کو تہمت سے بری کرنا۔ اَبْرَأَہٗ من الدَین: کو قرض سے بری کرنا۔ تَبَرَّأَ من الذَنبِ: گناہ سے نجات پانا۔ اِسْتَبْرَأَ: قرض یا گناہ سے برأت چاہنا۔ البَرِیْ و البَرِیّ جمع بَرِیئُون و بُرَآء و بِراء و اَبْراء و اَبْرِیاء مونث بَرِیئۃ و بَرِیَّۃ جمع بَرِیئات و بَرِیَّات و بَرَایَا: خالص، خالی وہ جو گناہ اور تہمت سے پاک و بری ہو۔ البَرَاءُ: بری۔ اَنا براءٌ منہ: میں اس سے بری ہوں۔ (یہ مصدر ہے اس کی تثنیہ، جمع اور مونث نہیں آتی) البراءَۃ جمع بَرَاءَات: بَرِئ کا مصدر۔ قرض سے بری کرنے کی تحریر، اجازت۔ ـــ السلطانیۃ: سلطانی فرمان جو دولت عثمانیہ میں دوسرے ممالک کے سفراء وغیرہ کی تعیناتی کی تصدیق کے طور پر دیا جاتا تھا۔

۴۔ بَارَأَ شریکَہٗ: شریک سے جدائی اختیار کر لینا۔ تَبَارَأَ الزوجانِ: خاوند بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا۔

۵۔ اَبْرَأَ الرجلُ: مہینہ کی پہلی رات میں داخل ہونا۔ البَرَاء: مہینہ کی پہلی رات۔ اِبنُ البَرَاء: مہینہ کی آخری رات۔

۶۔ البَرَاءَۃ جمع بَرَاءَات: لائسنس، ڈپلوما، پیٹنٹ (patent)، ـــ البابویۃ: پاپائی فرمان۔ جسے لاطینی میں بولّہ (bull) کہتے ہیں۔ البُراءَۃ جمع بُرَاء: مچان۔

○ بَرِیَء ـ بَراءۃً من الی: سے (خصوصاً جرم، الزام وغیرہ سے) کے نزدیک، آزاد ہونا یا ہو جانا، مبرا ہونا یا ہو جانا۔ ـ من: (بیماری) سے شفایاب ہونا۔ بَرَّأَہ من: کو (شک، الزام، جرم وغیرہ) سے بری الذمہ قرار دینا، بری کرنا، آزاد کرنا، مبرا کرنا۔ بَرَّأَ ساحۃَ الرجُلِ: اس نے آدمی کو بری کر دیا، بری الذمہ قرار دے دیا۔ اَبْرَأَہ: کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، کو صحت یاب کرنا۔ اَبْرَأَ ذمتہٗ: کسی کو یا اپنے آپ کو جرم سے مبرا، بری قرار دینا۔ تَبَرَّأَ من: (شک الزام سے) مبرا ہونا، ذمہ داری سے آزاد ہونا، مبرا ہونا، سے خلاصی پانی، اپنے آپ کو سے بے گناہ قرار دینا، کی ذمہ داری سے انکار کرنا، بری ہونا، بری الذمہ ہونا۔ اِسْتَبْرَأَہ: کی صحت بحال کرنا۔ ـــ من: خود کو سے مبرا کرنا، سے خلاصی پانا۔ بُرْءٌ و بُرُوء: افاقہ، صحت یابی۔ بَرِیْ جمع اَبْرِیاء و بُراء و بِرَاء من: سے مبرا، مستثنیٰ، خالی، محروم؛ ـــ: بے گناہ، معصوم، بے قصور، بھولا بھالا، بے ریا، بے ضرر، صحتمند، صحیح سالم۔ بَرَاءٌ من: سے مبرا، مستثنیٰ۔ ذِمَّتُہٗ براءٌ مِن: وہ سے معصوم ہے۔ براءَت: مبرا ہونا، انکار، تردید، پسپائی، واپس لینا، معصومیت، بے گناہی، بے ریائی، بھولپن، سادہ لوحی، (جمع بَراءَات): لائسنس، ڈپلوما، پیٹنٹ (patent)۔ بَراءَۃ اختراع: کسی ایجاد پر حکومت کی طرف سے حفاظت کی سند۔ بَراءۃ التنفیذ: حکومت کا دوسرے ملک کے قونصل کو تسلیم کرنا۔ براءۃ الثقۃ: کاغذات نمائندگی، سرکاری تصدیق یا مراسلہ، تعارف، تصدیق نامہ (credentials)۔ علی براءۃ: بے ضرر، معصوم، بے گناہ، بے قصور۔ تَبْرِئَۃ: مبرا کرنا، استثناء، بریت، خلاصی۔ مُبَارأۃ: خاوند اور بیوی کی باہم رضامندی سے دی جانے والی طلاق۔ اِبْراء: بریت، نجات، کسی قرضدار کو قرض کی ادائیگی یا دیگر ذمہ داریوں سے آزادی، قرض کی معافی۔

○ براجوی: پیراگوئے (Paraguay) ایک ملک کا نام۔

○ البرازیل: برازیل Brazil۔

○ براسیری: جو کی شراب نوشی کا دیوان خانہ۔

○ براغ: پراغ Pague۔

○ برافان: تہہ ہو سکنے والا پردہ۔

براھما: برہما۔

برأل: بَرْأَلَ و تَبَرْأَلَ و ابْرَأَلَّ الطائر: پرندہ کا لڑائی کے لئے گردن کے بال کھڑے کرنا۔ البُرَائِل و البُرَائِلَی: پرندہ کی گردن کے گرد بال۔ برائِلُ الارضَ: سبز گھاس۔

برب: ۱۔ البَرْبَخ جمع بَرَابِخ: بدرو، مٹی کی بنی ہوئی پختہ نالی۔

۲۔ بَرْبَرَ: بے فائدہ بکواس کرنا، بک بک کرنا، غصہ میں چلانا صفت: بَرْبَار۔ ـ المَعَزُ: بکرے کا میں میں کرنا۔ تَبَرْبَرَ: وحشی ہونا۔ البَرْبَرِی جمع بَرَابِر و بَرَابِرَۃ: بربر قوم کا فرد۔ البَربَر: مغربی افریقہ کے لوگ۔ مصر اور دیگر ممالک میں زنگیوں اور حبشیوں پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ (مجازاً): وحشی، ظالم، جابر۔

۳۔ بَرْبریس (ن): ایک خاردار پودے کا نام۔

۴۔ بَرْبَصَ الأرضَ: زمین کو پانی دینا۔

۵۔ البَرْبَط (مو): بربط باجہ، سارنگی (فارسی لفظ)۔

○ بَرْبَرَ: بڑبڑانا، بک بک کرنا۔

○ بِرْبَۃ و بِرْبَی جمع بَرَابِی: قدیم مصری مندر۔ مندر کے کھنڈرات جن کا تعلق قدیم مصر سے ہے، بھول بھلیاں۔

○ بَرْبَرِیۃ: وحشیانہ پن، ظلم، سفاکی، وحشی پن، جنگلی پن، وحشیانہ انداز، ظلم و ستم، ستم شعاری، جفا کاری۔ مُتَبَرْبِر: غیر مہذب، ظالم، وحشی۔

○ بربیش: حقہ کی نلکی، حقہ کی نلکی۔

○ بَرْبَطَ: (پانی میں) چھینٹے اڑانا، چھپ چھپ کرنا، چھپ چھپ کر کے چلنا، ننگے پاؤں چلنا، ہاتھ پاؤں مارنا، چھینٹیں اڑانا۔

○ بَرْبُونی و بربون: سرخ سمندری مچھلی۔

برت: ۱۔ بَرِتَ ـ بَرْتًا: حیران ہونا۔ بَرَتَ ـ بَرْتًا الشیءَ: کو کاٹنا۔ البُرْت و البِرت و البِرِّیت جمع ابْرات: ماہر راہبر۔ البُرت و المِبرت: چینی، کھانڈ۔

۲۔ البَرِّیت جمع بَرَارِیت: صحراء۔

۳۔ البُرتقال و البرتقان واحد برتقالۃ یا برتقانۃ: نارنگی، نارنگی کا درخت، سنترہ، مالٹا، سنترہ یا مالٹا کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

درخت۔

○ بُرُتُقالي و بُرُتُقالی: نارنگی، مالٹا یا سنترہ رنگ کا۔

برث: البُرْثُن جمع بَرَاثِن من السباع و الطير: پنجہ، چنگل۔

برج: ا۔ بَرِجَ - بَرَجًا: کھانے پینے میں فراخ حال ہونا، رزق میں کشائش والا ہونا۔

۲۔ بَرِجَتْ - عينُهُ: سیاہ اور فراخ آنکھوں والا ہونا، حسین آنکھوں والا ہونا صفت: أَبْرج۔ برجاء جمع بُرْج: حسین آنکھ۔ البَرَج جمع أَبْرَج: خوبصورت۔

۳۔ بَرَجَ - الشيءُ: ظاہر ہونا، بلند ہونا۔ بَرَّجَ و أَبْرَجَ: برج بنانا، مینار بنانا۔ تَبَرَّجَتِ المرأةُ: عورت کا اجنبیوں کو اپنی آرائش اور خوبصورتی دکھانا۔ البَرَج جمع أَبْرَاج: ظاہر، معلوم۔ البُرْج جمع بُرُوج و أَبْرَاج و أَبْرِجة: قلعہ، محل، مینار، گنبد، کونہ، قلعہ کا کونہ۔ (فلك): بارہ آسمانی برجوں میں سے ایک برج جو یہ ہیں۔ حمل یا کبش، ثور، جوزاء، یا توأمان، سرطان، اسد یا لیث، سنبلہ یا عذراء، میزان، عقرب، قوس یا رامی، جدی یا تیس، دلو یا ساقی یا ساکب الماء، حوت یا سمکۃ۔ فلك البروج: منطقۃ البروج۔

۴۔ البَارِج: ماہر ملاح۔ البارجة جمع بَوَارِج: بڑا جنگی بحری جہاز۔ سفينةٌ بارجةٌ: کھلی کشتی۔ کہتے ہیں: ما فلانٌ الا بارجةٌ قد جمع فيه كل الشرّ: فلاں شخص شریر ہے۔ تباريج النَبَات: پودوں کے پھول۔ الإِبْرِيج: دودھ بلونے کا آلہ۔

۵۔ البرجاس (ا ع): جانوروں کی پیٹھوں پر رکھی جانے والی گدی۔

۶۔ البُرْجُد: دھاریدار موٹی چادر۔

۷۔ البُرجُمة جمع بَرَاجِم (ع ا): انگلیوں کے جوڑ یا ہاتھ اور پاؤں کی چھوٹی ہڈیاں۔ البَرَاجِم: قبیلہ تمیم کی ایک شاخ، ایک ضرب المثل ہے: ان الشقي وافدُ البراجم: یہ مثل اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو خود کو لالچ میں آ کر ہلاکت کی نذر کر دے۔ اس ضرب المثل کا پس منظر یہ ہے کہ سوید بن ربیعہ نے عمرو بن ہند کے بھائی کو قتل کر دیا، تو عمرو نے قسم کھائی کہ وہ بنی تمیم کے سو آدمیوں کو مار کر نذر آتش کرے گا چنانچہ بنو دارم (بنو تمیم کی ایک شاخ) کے ننانوے آدمیوں کو مار کر اس نے آگ میں ڈال دیا۔ قسمت کا مارا براجم کا ایک آدمی گوشت کی بو سونگھ کر اور یہ خیال کر کے کہ ولیمہ کی تقریب ہے وہاں جا پہنچا، عمرو نے اس سے پوچھا تم کس قبیلہ کے ہو تو اس نے کہا: میں براجم سے ہوں۔ یہ سن کر عمر نے اسے بھی قتل کر دیا اور یوں سو کی گنتی پوری کر لی۔

۸۔ البرجيس (فلك): مشتری ستارہ۔ ابو برجيس: ایک خاردار درخت۔

○ تَبَرَّج: عورت کا اپنے حسن کی نمائش کرنا، بننا، سنورنا، بناؤ سنگار کرنا۔ بُرْجُ الحَمَام: کابک۔ بُرْجُ المِيَاه: پن مینار water-tower۔

○ لعبُ البِرْجَاس: فوجی شہسواروں کی نیزہ بازی، کھیلوں کا عام مقابلہ۔

○ البِرجِيس: مشتری (ستارہ)

○ بَرْجَل جمع بَرَاجِل: کمپاس، پرکار۔

○ بُرْجُمَة جمع بَرَاجِم: انگلیوں (یا پوروں) کے جوڑ کی ہڈی، انگلیوں کا جوڑ۔

برح: ا۔ بَرِحَ - بَرَاحًا و بَرَحًا المكانَ و منه: کسی جگہ سے ہٹنا، کسی جگہ کو چھوڑنا، زائل ہونا۔ کہا جاتا ہے: ما بَرِح و لابَرِحْتَ غَنِيًّا: وہ اور تم غنی رہے۔ بَرِح الخفاءُ: اخفا ظاہر ہو گیا۔ أَبْرَحَهُ: کو اس کی جگہ سے ہٹانا۔ بَارَحَ المكانَ: جگہ سے ہٹنا اور چھوڑ جانا۔ بَرَاحِ: سورج کا اسم علم یعنی سورج (قَطَامِ کی طرح) البارِح و البَارِحَة: شب گذشتہ۔ البارحة الاولى: گذشتہ رات سے پہلی رات۔ کہا جاتا ہے: هذه فعلةٌ بارحةٌ: یہ فعل غلط اور غیر ارادی ہے۔

۲۔ بَرَحَ - بَرْحًا الرجلُ: غصہ ہونا، ناراض ہونا۔

۳۔ بَرَحَ - بُرُوحًا الصيدُ: شکار کا دائیں طرف سے گذر جانا۔ صفت: بَارِحٌ و بَرُوحٌ و بَرِيحٌ۔

۴۔ بَرَّحَ به الامرُ: کو کام کا تھکا دینا، سخت دکھ اور تکلیف دینا۔ — اللّٰه عنك: اللہ تیری تکلیف کو دور کرے۔ أَبْرَحُ: (تفضیل کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: هذا أَبْرَحُ عَلَّی من ذلك: یہ مجھ پر اُس سے زیادہ مشکل اور سخت ہے۔ قتلوهم أَبْرَحَ قتلٍ: انہوں نے اُسے زیادہ برا قتل کیا۔ البَرْح جمع أَبْرَاح و التَبْرِيح و البُرَحاء: سختی، تکلیف، برائی۔ التَبَارِيح: مصائب زندگی۔ کہا جاتا ہے: تباريح الشوق: تمتماہٹ، (آرزو کی)۔

۵۔ أَبْرَحَهُ: کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، پر تعجب کرنا۔ ما أَبْرَحَ هذا الامرَ: یہ معاملہ کتنا حیرت انگیز ہے! البَرْح: دہشت انگیز معاملہ ہم کہتے ہیں: أمرٌ

۶۔ البَرَاح: ظہور، بیان۔ کہا جاتا ہے: لا بَرَاحَ: کوئی شک نہیں۔ جاءَنا الامرُ براحًا: معاملہ ہم تک واضح طور پر پہنچا۔ جاءَ بالكفر بَرَاحًا: اس نے کفر کا اظہار صاف اور کھلے طریقہ سے کیا۔ البَرَاح: کشادہ زمین جس میں نہ روئیدگی ہو اور نہ کوئی عمارت۔ بَرْحَى: تیر کے خطا کرنے پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بمعنی ارے، لیکن تیر نشانہ پر لگے تو مَرحی کہا جاتا ہے۔ بمعنی واہ، کیا خوب۔ البارِح جمع بَوَارِح: گرم ہوا۔ ابنُ بَرِيح: کوا۔

○ بَرِحَ - بَرَاحًا ه/من الى: کسی جگہ کو چھوڑ کر کسی جگہ جانا۔ — ه إلى: کی طرف جاتے ہوئے کسی جگہ سے روانہ ہونا۔ (نفی کے ساتھ) جاری رہنا، ہونا جیسے: مابَرِح في: وہ ابھی تک اندر ہے۔ ما برح غنیا: وہ ابھی تک دولت مند ہے۔ بَرِح الخفاء: معاملہ باہر آ گیا، اور عام طور پر علم میں آ گیا۔ غَدَا و بَرِح: آنا اور جانا۔ بَرَّحَ ب: کو گھیر لینا، پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑنا، کو پریشان کرنا، دق کرنا، ستانا، زچ کرنا، کو جان بوجھ کر چھیڑنا، تکلیف دینا، زحمت دینا۔ بَارَحَ ه إلى: کسی جگہ کو کسی جگہ جانے کے لئے چھوڑنا، کسی جگہ سے کی طرف جاتے ہوئے روانہ ہونا۔ بَرَاح: روانگی، خاتمہ، انقطاع، اختتام، رُکنا، وسیع خالی زمین، وسیع علاقہ، پھیلاؤ، کشادگی۔ بَرَاحًا: کھلم کھلا، واضح طور پر، صریحاً۔ تباريح: (آرزو، عشق وغیرہ) کے کرب، کی اذیتیں۔ مُبَارَحة: روانگی۔ بَارِح: بدشگون، منحوس، نامبارک۔ البارح: گذشتہ کل۔ البارحة: گذشتہ کل۔ الليلة البارحة: گذشتہ شب۔ اوَّلَ البارحة: گذشتہ پرسوں، دو دن پہلے۔ مُبَرِّح: تشدد آمیز، شدید، سخت، سخت شدید (درد وغیرہ)، ذہنی کوفت کا موجب۔ مُبَرَّحٌ به: ایذاء دیا گیا، دکھ پہنچایا گیا، تکلیف میں ڈالا گیا، متاثر زدہ، سخت اذیت دیا گیا، سخت کوفت پہنچایا گیا۔

برد: ا۔ بَرَدَ - بَرْدًا و بَرُدَ - بُرُودَةً: ٹھنڈا ہونا صفت: بَرْدٌ و بارِدٌ و بَرُودٌ و بُرادٌ۔ بَرَدَ - بَرْدًا الخبزَ: روٹی پر پانی ڈالنا۔ — العينَ: آنکھ میں ٹھنڈا سرمہ لگانا۔ بَرَدَ الليلُ و بَرَدَ علينا: ہم کو رات کی سردی لگی۔ — و بَرَّدَهُ: کو ٹھنڈا کرنا۔ — الوجعَ: درد کو کم کرنا اور سکون دینا۔ — فلانٌ: سست پڑ جانا۔ کہا جاتا ہے: جَدَّ في الامر ثم بَرَدَ: اس نے معاملہ میں سرگرمی دکھائی پھر سرد پڑ گیا۔ بُرِدَتِ الارضُ: زمین پر اولے گرنا۔ — القومُ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لوگوں کو سردی لگنا، یا ان پر اولے پڑنا۔ اُبْرِدَ: موسم سرما یا اولوں میں داخل ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو ٹھنڈا کرنا۔ تَبَرَّدَ: ٹھنڈک چاہنا۔ کہا جاتا ہے: نزل فی الماء یتبرد: وہ پانی میں اتر کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ لاتُبَرِّدْ عن فلانٍ: اگر وہ تم پر ظلم کرے تو اُس کو گالی نہ دینا، مبادا اس کا گناہ کم ہو جائے۔ تَبَارَدَ: سردی ظاہر کرنا۔ اِبْتَرَدَ: ٹھنڈے پانی میں نہانا۔ اِستَبْرَدَہٗ: کو ٹھنڈا پانا۔ البَرْدُ: سردی۔ البَرَدُ: اولے۔ البَرَدَۃُ: ایک اولہ (بَرَد کا واحد)۔ بدہضمی۔ البَرُوْد: آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے والا سرمہ۔ کہا جاتا ہے: ثوبٌ بَرُودٌ: ابھری درزوں والا کپڑا، روئیں دار کپڑا۔ البُرَدَاءُ: سردی کے ساتھ بخار۔ البَرَّاد: ریفری جریٹر، فرج، سردخانہ۔ البَرَّادَۃ: واٹر کولر water cooler۔ المُبَرِّدَۃ: ٹھنڈ پیدا کرنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے۔ ھذا مُبَرِّدَۃٌ للبدن: یہ جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ البارد (فا): ٹھنڈا۔ عیشٌ باردٌ: خوشگوار زندگی۔ غنیمۃ باردۃ: لڑائی اور محنت مشقت کے بغیر ملنے والا مال غنیمت۔ البَرْدان و الأبْرَدان: صبح و شام۔

۲۔ بَرَدَ ـ بَرْدًا الحقُّ علیہ اولَہٗ: کے خلاف یا حق میں حق ثابت ہونا۔ ـــ وبَرَّدَ الحقَّ: حق کو ثابت اور واجب کرنا۔

۳۔ بَرَدَ فلانٌ: سونا۔ البَرْدُ: نیند۔

۴۔ بَرَدَ ـ بَرْدًا الحدیدَ: لوہے کو ریتی سے رگڑنا۔ اِستَبْرَدَ علیہ لسانَہٗ: پر زبان درازی کرنا۔ البُرَادَۃ: لوہے وغیرہ کا ریتا ہوا برادہ۔ المِبْرَد: ریتی۔ البارِد: قاطع، کاٹ دار۔ المرهفات البوارد: کاٹ دار تلواریں، کاٹنے والی تلواریں۔

۵۔ أَبْرَدَہُ المرضُ: کو بیماری کا کمزور کرنا۔ البَارِد: کمزور۔ حجۃ بارِدۃ: کمزور اور پھسپھسی دلیل۔

۶۔ أَبْرَدَ الیہ البریدَ: کی طرف قاصد یا ایلچی بھیجنا۔ البَرِید جمع بُرُد: قاصد، ایلچی، تقریباً بارہ میل کی مسافت، ڈاک، ڈاکخانہ، بھیجی ہوئی چیزوں کو وصول کرنے اور دینے والا دفتر، بھیجے جانے والے خطوط اور پارسل۔

۷۔ البُرْد جمع بُرُود و أَبْرَاد و أَبْرُد: دھاریدار کپڑا (کہا جاتا ہے: وقع بینھم قَدُّ بُرُودٍ یمانیۃ: وہ آپس میں اتنے جھگڑے کہ ان کے قیمتی لباس تک پھٹ گئے)۔ کالا کمل واحد بُرْدَۃ جمع بُرَد۔ الأبْرَد جمع بارِد مونث البَرْداء (ح): چیتا۔ البَرْدِی (ن): نرکل کی طرح کا ایک پودا جس کے چھلکے کو قدیم مصری لکھنے کے کام میں لاتے تھے۔ البَرْدِیّ: کھجوروں کی ایک عمدہ قسم۔

۸۔ البَرْذَعَۃ و البَرْدَعۃ: جانور کی پیٹھ پر ڈالا جانے والا کپڑا، عرق گیر۔

۹۔ برد بوط: پادری جس کے ذمہ رعایا کے پاس جانے کا فرض ہو۔

○ بَرَدَ ـ بَرْدًا: ٹھنڈا ہونا یا ہو جانا، کم ہونا، ٹھنڈ محسوس کرنا۔ ـــ ہ: کو ٹھنڈا کرنا، (تکلیف) کو تسکین پہنچانا، ہلکا کرنا، کم کرنا، گھٹانا۔ بَرُدَ ـ بردًا: ٹھنڈا ہونا یا ہو جانا۔ بَرَّدَ ہ: کو ٹھنڈا کرنا، (اشیاء خوردنی) کو برودت کے ذریعے محفوظ کرنا۔ (تکلیف) کو تسکین پہنچانا، سکون دینا، کم کرنا، ہلکا کرنا، گھٹانا۔ تَبَرَّدَ: تازہ دم ہونا، تسکین حاصل کرنا، سکون پانا۔ اِبْتَرَدَ: ٹھنڈا ہو جانا۔ بَرْد: ٹھنڈ، خنکی، سردمہری، تخفیف، کمی، تسکین، زکام، نزلہ۔ بَرَد: ژالہ، اولہ، اولوں کی بوچھاڑ۔ بَرَدَۃ: اولہ۔ بَرُود: کاجل، انجن سرمہ۔ بُرُود: ٹھنڈا، ٹھنڈک، سردمہری، جذباتی سردمہری، بے حسی، بے اعتنائی، مردہ دلی۔ بُرُودَۃ: ٹھنڈ، سردی، جذباتی سردمہری، بے حسی، بے اعتنائی، مردہ دلی۔ بُرُودَۃ الدم: بے دردی، بے رحمی، سفاکی۔ بَرْدِیَۃ: موسمی بخار، ملیریا، تپ لرزہ، جاڑے کا بخار، باری کا بخار، نوبتی بخار۔ بُرَدَاء: موسمی بخار، تپ لرزہ، جاڑے کا بخار۔ بَرَّادَۃ: سردخانہ کا کارخانہ، ریفری جریٹر، آئس بکس (ice box)۔ تبرید: ٹھنڈا کرنا، سردخانہ، برودت کے ذریعے اشیاء خوردنی کو محفوظ کرنا، تخفیف، تسکین۔ جھاز التبرید: ریفریجریٹر، cold storage۔ غرفۃ التبرید: کولڈ سٹوریج کا کمرہ۔ plant۔ بارِد: ٹھنڈ، ہلکا ٹھنڈ، نیم سرد، ٹھنڈے دل و دماغ کا، بے مہر، سردمہر، روکھا، آسان، کمزور، بے وقوف، احمقانہ، کند ذہن، غبی، کودن، کاٹھ کا الو۔ الحرب الباردۃ: سرد جنگ۔ غنیمۃ باردۃ: آسان شکار۔ عیشٌ باردٌ: مطمئن زندگی۔ حُجّۃ بارِدۃ: کمزور استدلال۔ تبغ باردٌ: ہلکا یا نرم تمباکو۔ مُبَرِّد: ٹھنڈک کرنے والا، تازہ دم کرنے والا۔ مُبَرِّدات: نقل چائے وغیرہ، کھانے پینے کی ہلکی چیزیں (refreshments)، مشروبات وغیرہ Beverages۔ مُبَرَّد: ٹھنڈا کیا ہوا۔

○ بَرَدَ ـ بردًا ہ: کو ریتی سے رگڑنا۔ بَرَّاد: ... fitter ...

بُرادۃ: لوہے کا برادہ۔ مِبْرَد ج مَبَارِد: ریتی، خار دار ریتی، سوہن (file- rasp)۔

○ بُرْد جمع أبراد: لباس۔ بُرْدَۃ: رسول کریم ﷺ کا بیرونی لباس۔ بُرْدَایۃ: پردہ۔

○ أَبْرَدَ ہ: (خط وغیرہ) بذریعہ ڈاک بھیجنا۔ بَرِید: ڈاک، میل۔ البرید الجوی: ہوائی ڈاک (air mail)۔ بَرِیدی: ڈاک کا، قاصد، ڈاکیہ، ہرکارہ، پیغام رساں۔

○ بارود: شورہ، قلمی شورہ، بارود (gunpowder)۔

○ بَرْدِی: پیپرس (قدیم مصر میں مستعمل) کاغذ کی ابتدائی شکل، بردی کاغذ۔ بَرْدِیَۃ جمع بَرْدِیات: بردی کاغذ۔ علم البردیات: کاغذ سازی کا قدیم زمانہ کا فن یا علم۔

○ بَرْداق جمع براديق: جگ، صراحی، جھجری، گھڑا۔

○ لعب البردج: پتوں کا کھیل۔ برج۔

○ بَرْدَخَ ہ: کو پالش کرنا، کو چمکانا، صیقل کرنا۔

○ بردعۃ: دیکھو برذعۃ۔

○ بردقان: دیکھو برتقان۔

○ بَرْدَقُوش: Marjoram۔ تازبو، مروا، مرزنا جوش۔

○ بردوسۃ: لوہے کا حلقہ curb۔

○ بَرْذَعَۃ جمع براذع: زین۔ بَرَاذِعِی: زین ساز۔

برذ: بَرْذَنَ الرجلَ: کو مغلوب کرنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا ترکی گھوڑے کی چال چلنا۔ البِرْذَون مونث برذونۃ جمع بَرَاذِین (ح): ٹٹو، ترکی گھوڑا۔

○ بِرْذَون جمع براذین: ٹٹو، مریل گھوڑا۔

برز: ۱۔ بَرَزَ ـ بُرُوزًا: میدان کی طرف نکلنا۔ بَرَّزَ: پاخانہ کرنا۔ تَبَرَّزَ: قضائے حاجت کے لئے میدان کی طرف جانا۔ البَرَاز: درختوں کے بغیر کھلا ہوا وسیع میدان، قضائے حاجت سے کنایہ۔ البِرَاز: آدمی کا پاخانہ۔ المَبْرَز و المُتَبَرَّز: قضائے حاجت کی جگہ۔

۲۔ بَرَزَ و بَرِزَ ـ بَرْزًا: گمنامی و پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا صفت: بارز۔ بَرَّزَ الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ أَبْرَزَ ہ: کو نکالنا، ظاہر کرنا ـــ الکتابَ: کتاب شائع کرنا۔ اِستَبْرَزَہٗ: کو نکالنا یا یا سامنے لانے کی درخواست کرنا۔

۳۔ بَرَزَ ـ بَرَازَۃً: ساتھیوں سے فضیلت اور شجاعت میں فوقیت لیجانا۔ صفت بَرْزٌ مونث: بَرْزَۃ بَرَزَ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الفرسُ: میدان میں دوسرے گھوڑوں پر سبقت لیجانا، آگے نکل جانا۔ — الرجلُ فی العلم: علم میں اپنے ساتھیوں سے سبقت لیجانا۔

٤۔ ابْرَزَ الرجُلُ: ارادۂ سفر کرنا۔

٥۔ بَارَزَ مُبَارَزَةً و بِرازاً هُ: سے مقابلہ پر نکل کر لڑنا۔ البِراز (مص): لڑنے کے لئے نکلنا۔

٦۔ البَرزخ جمع بَرازخ: دو چیزوں کے درمیان کی روک اور آڑ۔ خاکنائے (خشکی کا وہ تنگ حصہ جو دو بڑے حصوں کو ملائے) دنیا اور آخرت کے درمیان موت سے بعث تک وقت۔ برازخُ الایمان: ایمان کی ابتداء وانتہاء کے درمیان کی حالت یا شک و یقین کی درمیانی حالت۔

٧۔ تبرزق القوم: لوگوں کا بغیر گھوڑوں اور اونٹوں کے جمع ہونا۔ البَرازِیق واحد بِرْزِیق: لوگوں کے گروہ، شاہراہ کے اردگرد کے راستے (فارسی لفظ)۔ البَرازِق واحد بُرْزُقة (ط): تلوں والا کیک۔

○ بَرَزَ - بُرُوزًا: باہر آنا، ظاہر ہونا، نظر آنا، ظہور میں آنا، نکلنا، برآمد ہونا، باہر کو نکلا ہوا ہونا، ابھرا ہوا ہونا، باہر کو نکلنا، نمایاں ہونا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا (مجازاً بھی)۔ — علی: پر بازی لیجانا، سبقت لیجانا، سے بڑھ جانا۔ بَرَّزَهٗ: کو نکالنا، واضح کرنا، شائع کرنا، بے نقاب کرنا، دکھانا، کی زینت بڑھانا، کو نمایاں کرنا، پر زور دینا۔ — علی فی: پر میں بازی لیجانا، سبقت لیجانا، سے میں بڑھ جانا۔ - فی: پر آخر دم تک قائم رہنا، کا آخر تک حامی رہنا، کے ذریعے امتیاز حاصل کرنا۔ بَارَزَهٗ: سے لڑائی یا مقابلہ میں ملنا، کسی کے ساتھ مقابلہ میں حصہ لینا۔ أَبْرَزَهٗ: کو نکالنا، کھولنا، کھول کر ڈال دینا، کو نمایاں کرنا۔ — ه: (کتاب) شائع کرنا، شناختی کارڈ وغیرہ پیش کرنا، دکھانا۔ تَبَرَّزَ: رفع حاجت کرنا، قضائے حاجت کرنا، حوائج ضروریہ سے فارغ ہونا۔ تَبارَزَ: مقابلہ کرنا۔ بُرُوز: نمایاں یا ممتاز ہونا، باہر کو نکلا ہوا ہونا، ابھرا ہوا حصہ، آگے کو نکلا ہوا حصہ۔ بِراز: پاخانہ پیشاب، بول و براز، مقابلہ، مبارزت، میچ (کھیلوں کا)، دو آدمیوں کی لڑائی۔ بُرَیزۃ: دس پیاسٹر کا سکہ۔ أَبْرَز: زیادہ واضح، زیادہ امتیازی، زیادہ نمایاں، زیادہ ممتاز، زیادہ مشہور، زیادہ معروف، زیادہ نامور۔ مُبَارَزة: مقابلہ، مبارزت میچ، دو شخصوں کی لڑائی، تیغ زنی، پٹہ بازی، بانہ بازی۔ اِبراز: باہر نکالنا، دکھانا، نمائش، تاکید، زور، پیداوار، پیشکش۔ بارِز: ابھرا ہوا، آگے کو نکلا ہوا، اچھلتا ہوا، نمایاں بیرونی، بنیادی، بیل بوٹے کاڑھا ہوا، گل کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا، واضح، صریح، صاف، بین، جاذب توجہ، جاذب نظر، ممتاز۔ مُبَرِّز: (مقابلہ میں) جیتنے والا، فاتح۔ — علی: پر بازی لیجانے والا، سے برتر، عظیم تر، بہتر، بڑا یا بالا دست۔ مُبارِز: مقابلہ کرنے والا، لڑنے والا، جنگجو، تیغ زن، پٹے باز، بنٹ ہلانے والا۔

○ بَرِیز جمع بریزات: (پلگ) ساکٹ، دیواری پلگ، نکلنے کا راستہ۔ بَرِیْزَة جمع بَرائِز: (پلگ) ساکٹ، دیواری پلگ، نکلنے کا راستہ۔

○ بَرْزَان: ترم، بگل۔

○ بَرْزَخ جمع بَرَلزخ: وقفہ، خلا، فرق، پردہ، حد، سرحد، روک، رکاوٹ، مانع، خاکنائے۔

○ برزوق: پٹڑی، فٹ پاتھ۔

برس: ١۔ بَرِسَ - بَرَسًا: مقروض پر سختی کرنا۔ بَرَّسَ الأَرضَ: زمین کو نرم کرنا۔ البُرس و البِرس: روئی۔

٢۔ البِرْسِيَان: ایک قسم کی کھجور۔

٣۔ البِرسْكُوب: بالا بین (periscope)۔

٤۔ بَرْسَمَهُ: کو برسام کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ بُرْسِمَ: برسام کی بیماری میں مبتلا ہونا صفت: مُبَرْسَم۔ البِرْسَام (طب): ذات الجنب کی بیماری (pleurisy)۔

○ بِرْسِيم: طریفل، خصوصاً مصری برسیم clover۔

برش: ١۔ بَرِشَ - بَرَشًا و أَبْرَشَ: جلد پر سفید داغوں والا ہونا، یا جلد سے مختلف رنگ کے داغوں والا ہونا صفت: أَبْرَش و مُبْرَش: کہا جاتا ہے: مكانٌ أبرش: مختلف رنگوں کے کثیر التعداد پودوں والی زمین۔ سنة برشاء: وہ سال جس میں گھاس بہتات سے پیدا ہو۔ البَرِيش: سفید داغوں والا، جسم سے مختلف رنگ کے داغوں والا۔ البُرْشة و البَرَش: ناخنوں کی جڑوں کی سفیدی، گھوڑے کے بالوں پر چھوٹے چھوٹے دھبے جو اس کے رنگ سے مختلف ہوں۔

٢۔ بَرْشَمَ بَرْشَمَةً و بِرشامًا الرجلُ: خاموش رہ کر غم کا اظہار کرنا۔ — الیه: کو گھور کر دیکھنا۔ البُراشِم: تیز نظر والا۔ البُرْشُم: برقع۔

٣۔ بَرْشَنَ الرسالةَ: خط کو گوند سے چپکانا۔ البِرَشان واحد بِرْشانة: گوند لگی (طب) دوائیں بھرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی کھوکھلی ٹکیاں، تازہ روٹی جو گرجوں کی تقریبات میں استعمال کی جاتی ہیں۔

○ بُرشا جمع البَراشِی: چٹائی یا بوریا [illegible]

marfat.com

وار، چتلا۔

○ بِرِشْتٌ: بیض بِرِشْت: نرم ابالے ہوئے انڈے۔

○ بَرْشِلَونه: برسلونا (شمال مشرقی سپین کی بندرگاہ)۔

○ بَرْشَمَ ه: میں کیلیں یا رپٹیں لگانا۔ بَرْشَمَةً: کیلیں لگانا، رپٹیں لگانا (riveting)۔ بُرْشام و برشان (واحد برشامه و برشانة جمع بُرشامات و بُرشانات: ایک قسم کا پتلا کرکرا بسکٹ، عشائے ربانی کی روٹی، کاغذ یا نمدے کی ٹکیہ، گدی۔ بُرشامةً: رپٹ، میخ کیل۔ بُرشامجی: رپٹیں، میخیں یا کیلیں لگانے والا۔ بُرْشَمْجِيَة: رپٹیں لگانا، کیل لگانا، میخیں لگانا۔

برص: ١۔ بَرِصَ - بَرَصًا: برص کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ أَبْرَصَ الرجلُ: برص کی بیماری والے بچے کا والد ہونا۔ — اللهُ فلانًا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو برص والا بنانا۔ البَرَص: ایک جلدی بیماری جس کی وجہ سے جلد سفید ہو جاتی ہے اور ایک تکلیف دہ خارش لاحق ہو جاتی ہے۔ الأبرص مونث بَرْصَاء جمع بُرْص: برص کی بیماری میں مبتلا۔ مجازاً کہا جاتا ہے: حَيَّةٌ بَرْصاء: کوڑیالا سانپ، سفید دھبوں والا سانپ۔

٢۔ تَبَرَّصَ الأَرضَ: زمین کی گھاس پوری کی پوری چر جانا۔ ارضٌ بَرْصَاء: مختلف جگہوں سے چری ہوئی زمین۔

٣۔ الأَبْرص: چاند۔ سام أَبْرص (ح): چھپکلی، تثنیہ کی صورت میں کہا جاتا ہے: هذان سامّا ابرصَ اور جمع کی صورت میں کہا جاتا ہے: هؤلاء سوام ابرصَ و ابارِصَ۔

○ بَرِص - بَرَصًا: کوڑھی ہونا، جذامی ہونا، جذام کا مریض ہونا۔ بُرْص: چھپکلی۔ بَرَص: کوڑھ، جذام۔ أَبْرَص: کوڑھی۔ جذامی، جذام کا مریض۔ سام أبرص: چھپکلی۔

○ بُرْصه: بازار حصص stock exchange۔

برض: ١۔ بَرَضَ - بُرُوضًا النباتُ: نباتات کا پھوٹنا، پہلی روئیدگی ظاہر کرنا۔ بَرَّضَ و أَبْرَضَ المكانُ: جگہ کا بہت روئیدگی والا ہونا۔ تَبَرَّضَتِ الارضُ: زمین کا روئیدگی والا ہونا۔ البَارِض: زمین کی پہلے اگنے والی روئیدگی۔ البُرْضَة: نباتات نہ اگانے والی زمین، بنجر زمین۔

٢۔ بَرَضَ - بَرْضًا الماءُ من العين: چشمہ سے تھوڑا پانی پھوٹنا۔ بَرُوض: تھوڑے پانی والا چشمہ۔ تَبَرَّضَ الماءَ: پانی چوسنا۔ — الشیءَ: کو تھوڑا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تھوڑا لینا۔ ـــــــ: تھوڑی چیز پر زندگی گذارنا۔
البَرْض جمع بَرَاض و بُرُوض و أَبْرَاض: تھوڑا۔ کہا جاتا ہے: هـذا بَـرْضٌ مِـن عِدٍّ: یہ بہت میں سے تھوڑا ہے۔ البُـرَاض و البُـرَاضة: تھوڑا۔ المَبْرُوص: کثرت بخشش سے تنگ دست۔

○ بَرَضَ ۔ بُرُوضًا: (پودے کا) پھوٹنا، اگنا، کی کونپل پھوٹنا۔

برط: ا۔ البَـرْطَاش: پتھر کی چوکھٹ، اس کی فصیح عربی الأُسْكُفَّة ہے۔

۲۔ بَرْطَلَهُ بَرْطَلَةً: کو رشوت دینا۔ تَبَرْطَلَ: رشوت لینا۔ البُـرْطُل: ٹوپی۔ البِـرْطِيل: رشوت، چکی رانے کا مستطیل پتھر یا لوہے کی لمبی سلاخ۔

۳۔ بَرْطَمَ الليلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ـــ الرجلُ: غصہ کی وجہ سے ہونٹ لٹکانا۔ ـــ و تَبَرْطَمَ: غصہ سے پھولنا۔ البـرطام و البُراطم: موٹے ہونٹ والا۔

○ بَـرْطُوزُ البحرية: (بحری جہاز کے اگلے حصہ میں) ملاحوں کی آرام گاہ (تجارتی بحری جہاز پر) ملاحوں کے کوارٹر۔

○ بَرْطَعَ بَرْطَعَةً: سرپٹ دوڑنا۔

○ بَـرْطَلَ ہ: کو رشوت دینا۔ تَبَـرْطَلَ: رشوت لینا، ضمیر فروش ہونا۔ بِـرْطِيـل جمع بَـرَاطِيل: رشوت۔

○ بَرْطَمَ: چلا چلا کر بولنا، (ہذیان میں) بکے جانا، بیہودہ گوئی کرنا۔ بُرْطُوم: ہاتھی کی سونڈ۔

○ بَـرْطَمَان جمع بـرطمـانات: مٹی یا شیشے کا لمبا برتن (مربہ تیل وغیرہ کے لئے)۔

بـرع: ا۔ بَـرَعَ ۔ و بَـرِعَ ـ و بَـرُعَ ۔ بَـرَاعةً و بُـرُوعًـا: علم، فضیلت یا حسن میں فوقیت رکھنا صفت: بَـارِع ـ بَـرَعَ ۔ بُـرُوعًـا ہ: پر علمی فضیلت یا حسن میں فوقیت کی وجہ سے غالب آنا۔ ـ الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ البَـرِيـع: حسن و عقل و دانش میں فوقیت رکھنے والا۔ البَرقُ البَرِيع: دور سے چمکنے والی بجلی۔ البَرَاعة: تفوق، برتری۔ ـــ عـنـد البلغاء: فصاحت۔

۲۔ تَبَرَّعَ بالعطاء: ایسی بخشش کرنا جو نہ واجب ہو اور نہ اس سے کوئی عوض مطلوب ہو، عطیہ دینا۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَهُ تَبَرُّعًا وَ مُتَبَرِّعًا: اس نے اُسے بطور نفل کیا۔

۳۔ بَـرْعَـمَ بَـرْعَـمَةً و تَبَرْعَمَ الشجرُ: درخت کا غنچہ کھلنا یا نکلنا۔ البُـرْعُـم و البُرْعُمة جمع بَرَاعِم والبُـرْعُـوم و البُـرْعُـومَة جـمـع بَرَاعِيـم (ز): غنچہ نا شگفتہ (لغت کی کتابوں میں) درخت کے پھول اور کھلنے سے پہلے نباتات کے شگوفے اور پھول۔

○ بَرَعَ ۔ براعة و بروعاً ہ: سے فائق ہونا، بڑھ جانا، سبقت لیجانا، پر بازی لیجانا، شرف فضیلت یا فوقیت رکھنا۔ ـ: ہنرمند ہونا، ماہر ہونا، مشاق ہونا، آزمودہ کار ہونا، سلیقہ مند ہونا، استادانہ ہونا، ذی علم ہونا، قابل ہونا، لائق ہونا، واقف ہونا، ممتاز ہونا۔ تَبَـرَّعَ ب: کو دینا، بطور چندہ دینا، عطا کرنا، بطور عطیہ دینا، رفاہی کام میں بطور چندہ دینا، کو اپنی خوشی سے رضا کارانہ اپنے سر لینا یا کی ذمہ داری لینا یا کا بیڑا اٹھانا، کے لئے رضا کارانہ پیش کش کرنا، کو کرنے کے لئے تیار ہونا، آمادہ ہونا، کے ساتھ تیار ہونا۔ بَـرَاعَة: مہارت، اہلیت، استعداد، لیاقت، قابلیت، صلاحیت۔ بُـرُوعَة: برتر مہارت، نمایاں مہارت۔ تَبَـرُّع جمع ـ تَبَرُّعات: تحفہ، عطیہ، چندہ۔

○ بارِع: ماہر، کاریگر، جوہر قابل، قابل، لائق کارکن، کارگزار، تابندہ یا نمایاں (فن کاری)

○ بَـرْعَـمَ: کونپلیں پھوٹنا، پھوٹنا، شاخیں نکلنا، اُگنا، سوئے نکلنا۔ بُـرْعُم جمع بَـرَاعِـم و بُرْعُوم جمع بَـرَاعِيـم: کلی، غنچہ، شگوفہ، کونپل، پھول، نمو کی ابتداء۔

برغ: ا۔ بَـرَغَـثَ الـمكـانُ: جگہ کا بہت پسوؤں والی ہونا۔ بُـرغُـوث جمع بَـرَاغِيـث (ح): پسو۔ بَرغوثُ البحر: جھینگا مچھلی۔

۲۔ البَرْغَش واحد بَرْغَشة (ح): مچھر۔

۳۔ البُـرْغُل و البرْغِل: چھل کر بھونی ہوئی گندم جو دوسری خوراک کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔

۴۔ البرغّي و البُرغِيّ جمع بَرَاغِي: پیچ والی میخ۔

○ بُرْغُوث جمع بَرَاغِيث: پسو۔ براغيث: چاندی کے چھوٹے سکے (شام میں)۔ برغوثُ البحر: ایک قسم کا جھینگا۔

○ بَرْغَش واحد برغشة: مچھر، پشہ، چھوٹا سا کیڑا۔

○ بُرْغي جمع بَرَاغي: پیچ screw۔

برف: البرفِير: سرخ اور نیلے رنگ کا مرکب اودا، ارغوانی (رنگ): اس رنگ کا کپڑا۔

برق: ا۔ بَرَقَ ۔ بَـرْقـاً و بُـرُوقـاً و بَـرَقَاناً و بَرِيقاً البرقُ: بجلی کا ظاہر ہونا۔ ـــ ت السماءُ: آسمان سے بجلی کا چمکنا۔ ـ الشيءُ: چمکنا، جگمگانا۔ أَبْرَقَ: برق زدہ ہونا، پر بجلی گرنا۔ ـ ت السماءُ: آسمان کا بجلی چمکانا۔ ـــ بسيفه: تلوار چمکانا، تلوار سے اشارہ کرنا۔ ـــ عن وجهه: منہ کھولنا۔ البَرْق جمع بُـرُوق (ف): (آسمانی) بجلی۔ کہا جاتا ہے: بـرقٌ خُلَّبٌ و برقُ خُلَّبٍ و برقُ الخلَّبِ: بجلی جس کے بعد بارش نہ ہو، بے بارش کی بجلی۔ البَارِقة: بجلی والا بادل، تلواریں۔ بَـرَّاقَة: بجلی والی۔ سـحـابة بَرَّاقَة: بجلی والی بدلی۔ مَبْرَقُ الصبحِ جمع مَبَارِقُهُ و مَبَارِيقُهُ: صبح طلوع ہونے کا وقت۔

۲۔ بَرَقَ ۔ الرجلُ: دھمکی دینا۔ أَبْرَقَ: دھمکی دینا۔

۳۔ بَرَقَ ۔ بَـرْقًـا و أَبْرَقَ ت المرأةُ: عورت کا بننا، سنورنا۔ بَـرَّقَهُ: کو آراستہ کرنا۔ ـــ تِ المرأةُ: عورت کا بننا سنورنا۔

۴۔ بَرِقَ ۔ بَرَقاً: حیران ہونا، چندھیا جانا۔ البَرَق جمع أَبْـرَاق و بُـرقـان: خوف، دہشت۔ البَـرْقَة: دہشت، خوف۔ البَـرُوقُ مِـنَ الـرجـال: بزدل آدمی۔

۵۔ بَرَّقَ عينيهِ و بعَيْنَيهِ: آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔

۶۔ بَـرَّقَ: لمبا سفر کرنا۔ أَبْـرَقَ: تار بھیجنا۔ البَـرْق (ف): ٹیلیگراف Telegraphe۔ دائرةُ البريد و البَـرق: محکمہ ڈاک و تار۔ البَـرْقِية: ٹیلیگرام، تار، وائر، کیبل۔

۷۔ البَـرق جمع أَبْـرَاق و بُـرْقَـان (ح): بھیڑ کا بچہ۔ البُرْقة جمع بُـرَق و الأَبْرَق جمع أَبَارِق (تـصـغـير الأُبَيْـرِق): پتھر، ریت مٹی ملی ہوئی سخت زمین۔ الأَبْرَق: سیاہ و سفید رنگ والا۔ التَبـارِيق: تھوڑا گھی یا تیل جو کھانے میں ڈالا جائے۔

۸۔ بَـرْقَحَ بَرْقَحَةً و تَبَرْقَحَ وجْهُه: بدشکل ہونا۔ ـ الثوبُ: کپڑے کا آلودہ ہونا۔

۹۔ بَرْقَشَ بَرْقَشَةً ہُ: کو مختلف رنگوں سے آراستہ کرنا۔ ـــ في الكلام: بے سروپا باتیں کرنا۔ تَبَرْقَشَ: مختلف رنگوں سے آراستہ ہونا۔ البِـرْقِـش (ح): ایک دلکش آواز اور رنگین پروں والا پرندہ۔ ابُـــو بَـرَاقِـش (ح): ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے پر اوپر سے خاکی بیچ سے سرخ اور نیچے سے سیاہ ہوتے ہیں۔ جب پر کھولتا ہے، رنگ برنگ الوان دکھائی دیتے ہیں۔ اسکا اطلاق مجازاً متلون مزاج شخص پر بھی ہوتا ہے۔ البَرْقُوش: پرانا جوتا۔

۱۰۔ بَـــرْقَـطَ: چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا، پیچھے جھانکتے ہوئے واپس جانا۔ ـــ الكلامَ: بے ربط و بے ترتیب کلام کرنا۔

۱۱۔ بَـرْقَعَ المرأةَ: عورت کو برقع پہنانا۔ تـبـرقعت: عورت کا برقع پہننا۔ البُـرْقُع جمع بَـراقع: برقعہ، عورت کا روپوش۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۱۲- بَرْقَلَ: جھوٹ بولنا۔ البَرْقَلَة: عمل سے خالی بات۔ البرقيل (ا ع): ایک جنگی ہتھیار، جس کے ذریعے گولی اور پتھر وغیرہ پھینکا کرتے تھے۔

۱۳- البُرْقُوق (ن): جنگلی آلو بخارا، زرد آلو بخارا۔

۱۴- البَرْوَاق و البَرْوَق (ن): ایک لمبی ڈنڈی اور بہت پھولوں والا پودا، جو آرائش کے لئے استعمال ہو جاتا ہے، بکریاں اسے نہیں کھاتیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بادل آجاتے ہیں تو برسے بغیر یہ پودا سبز ہو جاتا ہے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: اشكرُ من بَرْوَقةٍ: بروقہ سے زیادہ شکر گزار۔ بروقہ ایک چھوٹا پودا جو ذرا سی نمی میں اُگ آتا ہے۔

○ بَرَقَ ـُ برقاً: چمکنا، روشن ہونا، دمکنا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا، یکا یک نظر آنا۔ برقت السماء: بجلی چمکی۔ أبرقَ: چمکنا، دمکنا، یکا یک نظر آنا، شعلہ فشاں ہونا، بادل کا بجلی، بجلی کے کوندے ظاہر کرنا، چمکنا، (چہرے کا) روشن تر ہونا۔ ــــ إلى: کو تار بھیجنا، بحری تار بھیجنا۔ بَرْق جمع بُرُوق: بجلی، بجلی کا شعلہ، ٹیلیگراف۔ برقُ خُلَّب: بارش کے بغیر بجلی کا کوندا (مجازاً): وعدے کر کے پورے نہ کرنے والا۔ بَرْقِي: ٹیلیگراف کا، کے متعلق۔ بَرْقِيَّة جمع برقيات: ٹیلیگراف، تار، بحری تار۔ بَرِيق جمع بَرَائِق: چمک دمک، چمکتی ہوئی سطح، شان و شکوہ۔ ذُو بريق معدني: دھاتی چمک دمک سے چمکایا ہوا، دھاتی چمک دمک کی تہہ چڑھا ہوا، ملمع شدہ۔ بُراق: ایک جانور کا نام جس پر سوار ہو کر نبی کریم ﷺ کا سات آسمانوں پر جانا بیان کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سفید آبی پرندہ۔ بَرَّاق: روشن، چمک دار، تابندہ، درخشاں، شعلہ فشاں، جگمگاتا۔ مُبْرِق: چمک، دمک، شعلہ۔ في مُبْرِق الصُّبح: صبح کے وقت سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ۔ بارِقُ الامل: امید کی جھلک۔ بارِقة جمع بَوارِق: جھلک، چمک، جگمگاہٹ۔ مُبْرِق كاتب: ٹیلی ٹائپ tele-type۔

○ البَرْقَة: مشرقی لیبیا کا علاقہ Cyrenaica۔

○ بَرْقَش برقشةً ہ: کو بوقلموں کرنا، کو کئی رنگوں سے رنگنا یا لیپنا، کو سجانا، کی تزئین کرنا، سج دھج نکالنا۔ ــــ قوله: اپنی تقریر کو نمک مرچ لگا کر زیب داستان کے لئے بڑھانا۔ بِرْقِش: ایک قسم کی چھوٹی چڑیا۔ بَرْقَشة: رنگین مجموعہ، رنگارنگی، بوقلمونی۔ مُبَرْقَش: رنگین، رنگ دار، بوقلموں، کئی رنگوں کا۔

○ بَرْقَعَ ہ/ ہ: کو نقاب اڑھانا، چھپانا، آراستہ کرنا۔ تَبَرْقَعَ: نقاب اوڑھنا، برقع پہننا۔ بُرْقُع جمع بَرَاقِع: برقعہ۔

○ بَرْقُوق واحد بَرْقُوقة: آلو بخارا۔

برك: ۱- بَرَكَ ـُ بُرُوكاً بالمكان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ ــــ بُرُوكاً و تَبْراكاً و بَرَّكَ و استَبْرَكَ البعيرُ: اونٹ کا اپنا سینہ زمین سے لگا کر بیٹھنا۔ أبْرَكَہ: اونٹ کو بٹھانا۔ إبْتَرَكَ فلاناً: کو پچھاڑ کر اپنے سینے کے نیچے لانا۔ ــــ فلاناً في عرضه و عليه: کو گالیاں دینا اور اس کی توہین کرنا۔ ــــ القومُ: لوگوں کا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جنگ کرنا۔ البَرْك: سینہ، بیٹھے ہوئے اونٹوں کا گلہ واحد بارك مونث باركة جمع بُرُوك۔ البِرْكَة جمع بِرَك: اونٹ کے بیٹھنے کی ہیئت۔ البَرِيك: اونٹ۔ المَبْرَك: اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: ليس لفلانٍ مبركُ جمل: فلاں کے پاس کچھ نہیں۔

۲- بَرَكَ ـُ فيه: کے لئے برکت کی دعا کرنا۔ بارَكَ الرجلَ: کے لئے برکت کی دعا کرنا، سے راضی ہونا۔ ــــ اللّٰهُ لك و فيك و عليك و باركك: اللہ تجھے مبارک کرے کہتے ہیں: بارَكَ على الانبياء و آلِهم: اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کی اولاد کو جو شرافت و بزرگی و عزت بخشی ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھ۔ بُورِكَ فيكَ: دعا کے طور پر نہیں بلکہ سائل کو جسے دور کرنا مقصود ہوا سے اس طرح خطاب کیا جاتا ہے۔ تَبَرَّكَ به: سے برکت حاصل کرنا، میں نیک فال دیکھنا۔ تَبارَكَ اللّٰهُ: ذات خداوندی کا مقدس ہونا۔ ــ به: سے نیک فال لینا۔ إسْتَبْرَكَ: برکت کی فال لینا۔ البَرِيك: برکت والا۔ البَرَكة: نیک بختی، نماز کے خاتمہ پر پادری کی دعاء، بڑھوتری، زیادتی۔

۳- إبْتَرَكُوا في العَدْو: تیز دوڑنے کی کوشش کرنا۔

۴- البِرْكة جمع بِرَك و أبْراك و بِرْكان: چکی والے کی اجرت و مزدوری۔ (ح): ایک چھوٹا سفید آبی پرندہ۔ البِرْكة جمع بِرَك (ح): دودھ دینے والی بکری، جوہڑ، تالاب، حوض۔ بَرِيكة (ن): جوہڑوں کے کنارے اگنے والی نباتات۔ البَرَّاك: چکی والا آٹا پینے والا، آٹا پینے کی اجرت لینے والا۔ البَارُوك: بزدل، کابوس۔

۵- البِركار و البِيكار (ہ): پرکار (فارسی لفظ)۔

۶- البُرْكان: کوہ آتش فشاں۔ ...

ہونا، گھٹنوں کے بل گرنا۔ ــــ ہ: کو کاٹنا، پچھاڑنا۔ تَبَرْكَعَ الرجلُ: سرین کے بل گرنا۔ البُرْكُع: پستہ قد آدمی۔

○ بَرَكَ ـُ: گھٹنوں کے بل بیٹھنا، دوزانوں ہونا۔ بَرَّكَ و أبْرَكَ ہ: اونٹ کو گھٹنوں کے بل بٹھانا۔ بَرَّكَ على يا في: کے لئے برکت کی دعا کرنا۔ بارَكَ ہ/في يا على: کیلئے برکت کی دعا کرنا۔ ــ ہ: کی منظوری دینا۔ تَبَرَّكَ ب: سے خوش و خرم ہونا، سے لطف اندوز ہونا، میں خوشی و سعادت ڈھونڈنا یا چاہنا، کی برکت طلب کرنا۔ تَبارَكَ: مبارک ہونا، تعریف کیا جانا۔ إسْتَبْرَكَ: مبارک ہونا۔ بِرْكة جمع بِرَك: تالاب، جھیل، جوہڑ۔ بِرْكة السباحة: تیرنے کا تالاب۔ بَرَكة جمع بَرَكات: برکت، اشیرباد، دعا، دعائے خیر۔ قِلَّةُ البركة: بدقسمتی، بدنصیبی۔ أبْرَك: زیادہ مبارک۔ تَبْرِيك جمع تَبْرِيكات: نیک خواہش، اشیرباد، برکت، دعاء، دعائے خیر۔ مُبارَك: مبارک، خوش نصیب، خوش قسمت۔ بَرارِيك: بیرکیں barrecks فوجیوں کے رہنے کے مکانات۔ بِرْكار: پرکار۔ بُرْكاني: کوہ آتش فشاں کا، کے متعلق یا آتش فشانی۔

برل: البَرْلَمان: پارلیمنٹ parliament النظام البرلماني: پارلیمانی نظام۔

○ بَرْلَماني: مجلس قانون ساز کا، پارلیمنٹ کے شایان شان، پارلیمنٹ کا منظور کردہ parliamentary۔

○ بَرْلَمانية: پارلیمنٹیریٹ parliamentarianism۔

○ بِرِلَنْتي: چمکیلا، ہیرا، الماس۔

○ بَرْلِين: برلن (جرمنی کا دارالحکومت)۔

برم: ۱- بَرَمَ ـُ بَرْماً و بَرَّمَ و أبْرَمَ الحبلَ: دولڑیاں کر کے رسی بٹنا صفت مفعولی: مَبْرُوم و بَرِيم۔ إنْبَرَمَ: رسی کا بٹنا، بٹا ہونا۔ ــ الامرَ: کام کو پختہ اور مضبوط کرنا۔ کہا جاتا ہے: قضاءٌ مُبْرَمٌ: اٹل حکم یا فیصلہ۔ البَرَّام: بٹنے والا۔ البَرِيم و البِرَام: بٹی ہوئی رسی، دھاگا ڈورا، ہر بٹی ہوئی شے۔ المِبْرَم جمع مَبارِم: تکلہ۔ المَبْرُومة: بٹے ہوئے سونے کا کنگن۔

۲- بَرِمَ ـَ بَرَماً: تنگ دل ہونا، بے قرار ہونا۔ أبْرَمَہ: کو ملول و پریشان کرنا، زچ کرنا۔ تَبَرَّمَ: زچ ہونا۔

۳- بَرِمَ ـَ بَرَماً بحُجَّتِه: کو دلیل نہ سوجھنا۔ أبْرَمَ عليه في الجدال: کسی کو لاجواب کرنے کے لئے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بحث کیے جانا۔

۴۔ البَرَم: بخیل لئیم، درخت عضاہ کا پھل۔ البُرُم: بداخلاق لوگ۔ البُرما: ایک قسم کا میٹھا پھل۔ البُرمة جمع بُرَم و بِرام: پتھر کی ہانڈی۔ البَرِیم: لشکر۔ البَرِیمة: برما، سوراخ کرنے کا آلہ۔

۵۔ البَرْمَانی من الدواب و الزحافات (ح): چلنے اور رینگنے والا جانور جو خشکی اور تری دونوں میں رہتا ہو۔ البَرْمَانیة: خشکی اور پانی میں چلنے والی گاڑی۔

۶۔ البِرْمیل جمع بَرامِیل: پیپا۔

○ بَرَمَ ـ بَرْمًا ہ: رسی کو موڑنا، بٹنا، کسی چیز کو بنانا، گول اور لمبی صورت دینا، سانچے میں ڈھالنا، آستین چڑھانا، کو مستحکم کرنا، مضبوط کرنا، نمٹانا، قائم کرنا۔ أبْرَم ہ: رسی کو مروڑنا، بٹنا، گوندھنا، کو مستحکم کرنا، قائم کرنا، نمٹانا: فیصلہ کرنا، (معاہدہ) طے کرنا، عدالتی فیصلہ وغیرہ کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا۔ إنْبَرَم: نمٹ جانا، قائم ہونا، کسی توثیق و تصدیق ہونا، مڑنا، بٹنا۔ بَرَّامَة جمع بَرَّامات: برما dirlling machine۔ بَرِیم: رسا، رسی، دھاگا، ڈوری، تلی۔ بَرِّیمَة جمع بَرِّیمات: برما، سوراخ کرنے کا آلہ، چھوٹا برما، لگام کا دہانہ، کاگ پیچ، پیچ کش۔ إبرام: تصفیہ، توثیق، معاہدہ وغیرہ کا طے پانا۔ محکمة النقض و الابرام: عدالت تنسیخ۔ سِلكٌ مبروم: تار، رسی، کیبل۔ مُبْرَم: محکم، مضبوط، اٹل، ناقابل تنسیخ، ٹھیک طور پر قائم، تصدیق شدہ، توثیق شدہ۔ قضاء مُبْرَم: ناگزیر تقدیر۔ بِصُورَةٍ مُبْرَمَة: اٹل صورت میں۔

○ بُرْمَة جمع بُرَم و بِرَام: مٹی کا برتن۔

○ بُرما: برما (ایک ملک کا نام) جل بھوی۔

○ بَرْمانی: زمین اور پانی دونوں جگہ رہنے یا کام کر سکنے والا جانور یا گاڑی۔ دبّابة برمانیَة: جل بھوی ٹینک۔

○ برمانیة: جل تھلیا، جل بھومیا۔

○ بَرِمَ ـ بَرَمًا ب: سے تھکنا یا تھک جانا، سے بیزار ہونا، اکتا جانا، کو برہم کن پانا، تھکا دینے والا یا اکتا دینے والا پانا۔ تَبَرَّمَ ب: پر برہم محسوس کرنا، سے ناراض و ناخوش ہونا، سے اکتا جانا، بیزار ہو جانا۔ ـــ ب/من: سے تھک جانا، سے بیزار ہونا۔ تَبَرَّم: بے صبر ہونا، تنگ آ جانا، برداشت نہ کر سکنے والا ہونا، غیر مطمئن ہونا، غیر قانع ہونا، رنجیدہ ہونا، تکلیف زدہ ہونا، دکھی ہونا۔ بَرِمٌ ب: سے تھکا ہوا، پر غصہ میں، طیش میں۔ ـــ: غیر مطمئن، غیر قانع۔ تَبَرُّم: تھکاوٹ، بوریت، اکتاہٹ، بیزاری، بے اطمینانی، ناخوشی، عدم اطمینان، گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی، بے کلی، بے آرامی، الجھن، برہمی، جھنجھلاہٹ۔ مُتَبَرِّم: برہم، خفا، ناراض، بگڑا ہوا، چڑچڑا، پریشان۔

○ بَرْمَانَنْت: مستقل لہر۔ برمانَنت علی البارد: (بالوں میں) ٹھنڈی لہر۔

○ بَرْمَق جمع بَرَامِق: کٹہرے کا کھمبا (پہیے کی) میخ۔

○ بَرْمَهات: قدیم مصری جنتری کا ساتواں مہینہ۔

○ بِرْمِنْكَهَام: برمنگھم (ایک شہر کا نام)۔

○ بَرْمُودَة: قدیم مصری جنتری کا آٹھواں مہینہ۔

○ بِرمیل جمع بَرامِیل: پیپا، چھوٹا پیپا، لکڑی کا پیپا، شراب کا بڑا پیپا۔

برن: ا۔ البَرناسیّة: شاعری میں تخیلی مسلک کی مخالفت اور لفظی فن اور شعری حسن سے شستگی پر توجہ کا مسلک۔

۲۔ البَرنامَج جمع بَرَامِج: اصل میں حساب کی جامع دستاویز، پروگرام، منصوبہ، جدول تفصیلات، گوشوارہ، نقشہ اوقات، بدلی جدول، فہرست، اشاریہ، نصاب، بجٹ۔

۳۔ بَرْنَسَہ فتَبَرْنَسَ: کو برنس پہنانا، پھر اس کا برنس پہن لینا۔ البُرْنُس: وہ لباس جس کا ایک حصہ ٹوپی کے طور پر استعمال ہو، آغاز اسلام میں پہنی جانے والی لمبی ٹوپی۔ بِرنِس مونث بِرنیس: شہزادہ، حاکم خاندان کے ہر رکن کا لقب (فرانسیسی)۔

۴۔ البُرنَیطة: ٹوپی، ہیٹ (اٹلی زبان کا لفظ)۔

۵۔ البَرنیّہ جمع بَرَانیّ: مٹی کا برتن۔

○ بُرُنْجُك: جالی، کریب (crepe)۔

○ بُرنُس جمع بَرانِس (نیز بَرْنُوس و بُرنُوس جمع برانیس): ٹوپی دار لبادہ۔ بُرنُس الحمّام: غسل کا لباس۔ بَرَانِسی جمع بَرانِسیّة: ٹوپی دار لبادے بنانے والا۔

○ جبالُ البَرانِس: پیرنیز کے پہاڑ۔

○ بَرِنس: پرنس، شہزادہ۔ برنسیة: پرنس، شہزادی۔

○ تَبَرْنَطَ: ہیٹ پہننا۔ بُرنَیطَة جمع برنیطات و بَرانِیط: ہیٹ hat، لیمپ شیڈ lamp shade۔

برہ: ا۔ بَرِهَ ـ بَرَهًا: کسی بیماری کے بعد جسم کا تندرستی کی حالت میں آنا صفت: أبْرَہ مونث بَرهاء جمع بُرہ۔ أبْرَہَ: دلیل لانا۔ البُرْهَة و البِرْهَة جمع بُرَہ و بُرهات: عرصہ، زمانہ کا کچھ حصہ۔

۲۔ البَرَاهِمة: مفرد بَرَهْمَن: ہندوؤں کے معبود برہما کے خدام۔

۳۔ بَرْهَنَ الشیءَ و علیه و عنه: پر دلیل قائم کر کے اسے واضح کرنا۔ تَبَرْهَنَ: واضح ہونا، ثابت ہونا۔ البُرْهان جمع بَرَاهِین: حجت، دلیل۔

○ بُرهة جمع بُرَهات و بُرَہ: عرصہ، وقت، تھوڑا عرصہ، تھوڑا وقت، لحہ۔ بُرْهَةً: تھوڑی دیر، تھوڑا عرصہ۔ بعد برهتین: دو منٹ بعد، تھوڑی مدت میں۔

○ بَرْهَمِیَّة: برہمنیت۔ بَرْهَنَ علی/عن: کو ثابت کرنا، واضح کرنا، بیان کرنا۔ بُرهان جمع بَرَاهین: ثبوت۔ بَرْهَنَة: ثابت کرنا، واضح کرنا، بیان کرنا۔

برو: ا۔ البِرواز: چوکھٹا، فریم، عربی الاصل لفظ: إطار ہے۔

۲۔ البُرو تستو: تثنیہ بُرو تستوان جمع بُرو تِستوات: نوٹری کا اعلان کہ ہنڈی باضابطہ نہیں اور ادائیگی سے انکار کیا گیا۔ عذرداری (protest)۔

۳۔ البُروتِسْتَانِی: دین مسیحی کا ایک فرقہ کا پیروکار جس کا بانی لوتھر تھا، معترض یا مصلح فرقہ کا ماننے والا یا اس کا یا اس کے متعلق۔ یہ فرقہ بروتسقانیة کہلاتا ہے۔

۴۔ بروتون (ف): پروٹون، مثبت برقیہ۔

۵۔ البرولیتاریا: محنت کش طبقہ pruletariat۔

۶۔ البروم (ك): سمندر کے پانی سے نکالا جانے والا سرخ زہریلے مائع کی شکل میں بدبودار مادہ (barium)۔ بُرُومُور (ك): بروم اور جسم بسیط کا مرکب۔

۷۔ البُرونز او الصفر (ك): کانسی (bronze)۔

۸۔ البَرُومِتر: ہواپیا، بارپیا barometer۔

○ بُرُوَة: ردی، ردی ٹکڑا۔

○ بَرُوتُسْتَانِی: پروٹسٹنٹ، احتجاجی مسیحی جمع بروتستانیون: ایک پروٹسٹنٹ، احتجاجی مسیحی۔ بَرُوتُستانیة: پروٹسٹنٹ عقائد، پروٹسٹنٹ مذہب (عیسائیت کا ایک فرقہ)۔

○ بَرُوتُوكُول: پروٹوکول، حکومتی معاہدہ کی اصل دستاویز، سفیروں کے استقبال کا محکمہ۔

○ بَرُوجرام: پروگرام (programe)۔

○ بُرُوجی جمع بُرُوجِیه: رسالہ کا ترہی، بگل بجانے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

والا، بگلی۔

ⓒ بَـرْوَز: چوکٹھے میں جڑنا، فریم لگانا۔ بَـرْواز و بِرواز: فریم، چوکھٹا۔

ⓒ بُـرُوسِيا: پرشیا Prussia۔ (ایک ملک کا نام)۔ بُرُوسِي: پرشی، ملک پرشیا کا باشندہ۔

ⓒ بُـرُوفَة و بَرُوفَة جمع بـروفات و بروفات: تجربہ، پروف شیٹ Proof-sheet۔ ریہرسل (rehearsal)

ⓒ بُرُونزي: کانسی کا۔ العصر البرونزي: کانسی کا زمانہ، عہد یا دور۔

برا: بَرَا ۔ بَـرْوًا و أَبْـرَى إبْرَاءً الناقةَ: اونٹنی کی ناک میں چھلا یا حلقہ ڈالنا۔ البُرَة جمع بُرًى و بُرات و بُـرِيـن و بِرين: کوئی حلقہ دار چیز مثلاً کنگن، بالی یا پازیب وغیرہ۔ کہا جاتا ہے: آتَـتْـهُ الـدنيـا بُرَتَها: اس نے دنیا بہت پائی۔

بری: ا۔ بَرَى ۔ بَرْيًا و ابْتَرَى السهمَ او القلمَ: تیر یا قلم کو تراشا صفت مفعولی: بَـرِي و مَبْـرِي۔ اِنْبَرَى: تراشا جانا، ترشنا۔ بَرَى – الشخصَ: کو دبلا کرنا، کمزور کرنا۔ البَـارِي: تیر تراش۔ ضرب المثل: اعطِ القـوسَ بـارِيَهـا: کمان کو اس کے تراشنے والے کے سپرد کرو مراد کام اس کو دو جو اسے کرنے کا اہل ہو۔ البُـرايَة و البُـراء: تراشہ، چھیلن۔ البَرَّاءَة و المِبْـرَاء و المِبْرَاة: چاقو، چھری، تراشنے کا آلہ۔ الإبْـرِيَة والتِبْـرِيَة: سر کی بھوسی جو کنگھی کرتے وقت گرتی ہے۔

۲۔ أَبْرَى: کو مٹی لگنا۔ البَرَى: مٹی، غبار۔

۳۔ بَارَى امرأتَهُ: اپنی عورت سے فراق پر صلح کرنا۔ – الرجُلَ: سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تَبَـارَيَا: آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اِنْبَرَى لـه: کو پیش آنا۔ تَبَـرَّى لـمعـروفه: بھلائی کے درپے ہونا۔

۴۔ البَـارِي (فا): خالق، پیدا کرنے والا، اصل برأ کی ہمزہ ہے۔ البَرِيَّة: دیکھو برأ۔

۵۔ البريفة: ابتدائی اعلیٰ سرٹیفکیٹ۔

ⓒ بَـرَى – بَـرْيًـا ہ: کو تراشنا، چھانٹنا، شکل دینا، قلم یا پنسل تراشنا، کو چھیل کر اتارنا، کھرچ کر اتارنا یا صاف کرنا۔ – ہ: کو تھکانا، دبلا کرنا، کمزور کرنا، نحیف کرنا، کی قوت ختم کرنا۔ بَارَاہ: سے مقابلہ کرنا، سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تَبَارَى: مقابلہ کرنا، حریف یا رقیب ہونا، مقابلہ میں دوبدو ہونا، (کسی کھیل میں) ایک دوسرے کی طاقت آزمانا۔ اِنْبَـرَى: ترشنا، چھلنا، تیز ہونا۔ – ل: کی مخالفت کرنا، کے مقابلہ میں آنا، سے مقابلہ کرنا، کو ہاتھ میں لینا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کچھ کرنے لگنا، کا آغاز کرنا۔ – من: سے علیحدہ ہونا۔ بَـرَى: غبار، مٹی۔ بَرّايَةُ القلم: پنسل تراش Pencilsharpner۔ مِبـراة: جیبی چاقو۔ مُبَـارَاة جمع مُبارِيات: مقابلہ، ٹورنامنٹ، میچ، رقابت، مدمقابل ہونا، حریف ہونا۔ مُتَبَـارٍ: مقابلہ میں حصہ لینے والا، مقابل، حریف۔

ⓒ بـريطانية: برطانیہ۔ البـريطـانيـا العظمى: برطانیہ عظمیٰ۔ بريطاني: برطانوی، برطانیہ کا۔

بز: بَزَّ ۔ بَزًّا و بِزِّيزَى ہ: پر غالب آنا۔

۲۔ بَزَّ ۔ بَـزًّا و بِـزِّيـزَى ہ: کے کپڑے اور اسلحہ اتار لینا۔ – الشيءَ منه: کو سے چھین لینا۔ اِبْتَزَّ منه الشيءَ: سے کچھ زبردستی چھین لینا۔

۳۔ البَـزّ جـمـع بُـزُور: ہتھیار، کتان یا روئی کے کپڑے۔ البِـزَّة: کپڑے، ہتھیار، ہیئت۔ البَزّاز: پارچہ فروش، کپڑے بیچنے والا۔ البِزَازَة: پارچہ فروشی، کپڑے کی تجارت۔

۴۔ بَزْبَزَ: تیز چلنا، سختی سے ہانکنا، بھاگ جانا، بہت حرکت کرنا۔

ⓒ بَزَّ ۔ بَزًّا ہ: سے کوئی چیز چرانا، لے جانا، چھین لینا، کو سے محروم کرنا، کو لوٹ لینا۔ – ہ: کو شکست دینا، سے آگے نکل جانا، سے بازی لیجانا، سبقت لیجانا، پر فتح پانا۔ اِبْتَزَّ ہ: کو چرا لینا۔ – من: روپیہ وغیرہ کسی سے چھین لینا۔ – ہ: کو لوٹ لینا۔ ابتزوا اموال النـاس: لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا، اڑا لینا۔ اِبْتِزاز: چوری، ڈاکہ، لوٹنا، مال اڑانا۔ بَزَّ ۔ بَزًّا: کونپل پھوٹنا۔ بُـزّ و بِـزّ جمع بِزاز و أَبْزاز: نپل، پستان کا منہ، سرپستان، چوچی، تھن، پستان۔ بَزّ جمع بُزُوز: لینن (کپڑا)، کپڑا، خشک اشیاء۔ بِـزَّة: کپڑے، لباس، یونیفارم، وردی۔ بِـزَّة (رسمية): وردی، یونیفارم۔ بَـزَّاز: پارچہ فروش۔ بِـزارة: پارچہ فروشی۔ بُـزْبُـور جمع بَزابير: ناک، تھوتھنی، ٹونٹی، دہانہ، منہ، پرنالہ۔

بـزب: البَـزْبُـورط و بَـسَـابُـورط: پاسپورٹ Passport۔

بزج: ا۔ بَزَجَ ۔ بَزجاً علىّ فلاناً: اس نے میرے خلاف کسی کو بھڑکایا، اکسایا۔

۲۔ بَـزَجَ ۔ بَـزْجًا: فخر میں مقابلہ کرنا۔ بَـازَجَهُ و [illegible]

۴۔ بَزَّجَهُ: کو آراستہ کرنا، خوبصورت کرنا۔

بـزخ: بَـزِخَ ۔ بَزَخًا: بھرے ہوئے سینے اور اندر کی جانب دبی ہوئی کمر والا ہونا صفت: أَبْـزَخ مونث بَـزْخَـاء جمع بُزْخ۔ تَبَازَخَ: ابزخ کی سی چال چلنا یا اس جیسی بیٹھک بیٹھنا۔ تَبَزَّخَ له: سے فروتنی کرنا۔

۳۔ تَبَـازَخَ عن الامر: کسی کام سے پیچھے ہٹنا یا پیچھے رہنا۔

بزر: ا۔ بَزَر – بَزْرًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

۲۔ بَـزَرَ و بَـزَّرَ القِدرَ: ہانڈی میں مسالہ ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: فـلان بزر كلامَهُ و تَوَبَّلَهُ: فلاں نے اپنے گفتگو میں نمک مرچ ملایا۔ البِـزْر جمع أَبْـزَار و جـمـع الجمع ابَازِير: مصالحہ۔ کہتے ہیں: مثلي لا يخفى عليه ابازيرُك: مجھ جیسے سے تمہاری گپ شپ چھپی نہیں رہ سکتی۔ البَـزَّار: مصالحہ بیچنے والا۔ البَيْزَر: ہاون دستہ۔

۳۔ بَزَرَ – بَزْرًا الحبوبَ: بیج بونا۔ البِزْر جمع بُـزُور واحد بِزْرَة: بیج، تخم۔ البَزَّار: بیج فروخت کرنے والا۔

۴۔ البَيْـزَر: دھوبی کی موگری۔ البَـزراء: المـرأة البَزْرَاء: کثیر الاولاد عورت۔ البَيْـزار جمع بَيَازِرَة: باز پالنے والا، کاشتکار (فارسی لفظ)۔

ⓒ بَـزَرَ – بَـزْرًا: بونا۔ بِـزر جمع بُـزُور: بیج جمع أَبزار و ابازير: مصالحہ۔ بِزْرة: بیج، گری، گٹھلی، وہ کلہ جو پہلی بار بیج سے نکلتا ہے۔ بَـزَّار: بیجوں کا تاجر، تخم فروش۔ بُـزَيْـرَة جمع بزيرات: تخمک (spore)۔

بـزع: ا۔ بَـزُعَ ۔ بَـزَاعَةً الـغلامُ: لڑکے کا خوش طبع ہونا، ظریف ہونا صفت: بـزيـع مـونـث بَزِيْعَة۔ تَبَـزَّعَ الغلامُ: تکلف ظریف بننا۔ البُـزّاع و البَـزِيـع من الـغلمان: بے جھجک اور بے دھڑک بولنے والا لڑکا۔

۲۔ تَبَزَّعَ الشرُّ: فتنہ اور برائی کا سنگین ہونا۔

۳۔ البُزّاع: ذکی و چرب زبان لڑکا۔ البَزِيع: شریف آدمی۔

بزغ: ا۔ بَزَغَتْ ۔ بَزْغًا و بُزُوغًا الشمسُ: سورج کا طلوع ہونا، نکلنا۔ اِبْتَـزَغَ الربيعُ: موسم بہار کا شروع ہونا۔ بَـوَازِغ: نـجـوم بـوازِغ: طلوع ہونے والے ستارے۔

۲۔ بَزَغَ ۔ بَزْغًا و بُزُوغًا دمَهُ: کا خون بہانا۔ – الحاجمُ او البيطارُ: پچھنے لگانے والے یا سلوتری

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کا نشتر لگانا۔ المِبزَغ: نشتر۔

○ بَزَغَ ـ: باہر آنا، (دن کا) نمودار ہونا، صبح ہونا، پو پھٹنا، سورج کا نکلنا۔ بُـزُوغ: نمود، ظہور، آشکارا ہونا، ظاہر ہونا، طلوع آفتاب۔

بـزق: بَزَقَ ـ بَـزْقًا: تھوکنا۔ البُزَاق: تھوک۔ البَـزَّاق واحـد بَـزَّاقة (ح): ایک قسم کا گھونگا۔ بُزُق: طبور۔ الـباش بُزُق: فوجی رسالہ (ترکی لفظ)۔

○ بُـزَاق: تھوک، لعاب دہن۔ بُـزَّاقَة: گھونگا، تاک۔ مِبْزَقَة جمع مَبَازِق: اُگالدان۔

بزل: ۱۔ بَزَلَ ـ بَزْلاً و بَزَّلَ الشيءَ: چیز میں شگاف کرنا، سوراخ کرنا۔ تَبَزَّلَ و انْبَزَلَ: سراخ ہونا۔ ـ الشرابَ: شراب صاف کرنا۔ تَبَزَّلَ و ابْتَزَلَ الـخـمـر: شراب کے برتن میں سوراخ کرنا۔ إِسْتَبْزَلَ الخمرَ: شراب کو صاف کرنا۔ البِزَال: برما، سوراخ کرنے کا اوزار۔ البُـزَال: شراب کے مٹکے کا سوراخ۔ الـمِبْزَل: برما، فلٹر، شراب صاف کرنے کا آلہ۔

۲۔ بَزَلَ ـ بَزْلاً و بَزَّلَ الشيءَ: کو پھاڑنا۔ بَزَلَ ـ بُزُولاً البعيرُ: اونٹ کا دانت نکالنا۔ ـــ نابُ البعير: اونٹ کے دانت (کچلیاں) کا نکلنا، اونٹ اور اونٹنی جس کا دانت نکلے: بَـازِل جمع بَوَازِل و بُـزَّل و بُزُل۔ تَبَزَّلَ الشيءُ: پھٹنا۔ إِنْتَزَلَ الجسدُ: جسم سے خون ٹپکنا۔ ـ السقاءُ: مشک کا ٹپکنا۔ إِسْتَبْزَلَ الشيءَ: کو کھولنا۔ البَـازِل: تازہ پھوٹا (نکلا) ہوا دانت۔

۳۔ بَزَلَ ـ الأمرَ: کام کو کر گزرنا۔ ـــ و بَزَّلَ رايَهُ: نئی رائے دینا۔ البَـازِل: تجربہ کار مرد۔ کہتے ہیں: رُمِيَ باشهب بازِلٍ: وہ سخت اور دشوار معاملہ میں الجھ گیا۔ البَزْلاء: عمدہ رائے (کہا جاتا ہے: امرأة بـزلاء الـرای: عمدہ رائے والی عورت۔ خِطَّة بـــزلاء: صاف اور واضح طریق کار)۔ بڑی مصیبت۔ البَزْل: شدت۔

۴۔ البُزْل (ح): ایک قسم کا پہاڑی بکرا۔

○ بَزَلَ ـ بَزْلاً ہ: کولبائی کے رخ پھاڑنا، چیرنا، میں سوراخ کرنا، (کسی چیز خصوصاً لکڑی کے پیپے) میں چھید کرنا، (میں) سوراخ کرنا، (سے) مواد نکالنا، (مائع چیز) کو صاف کرنا، مقطر کرنا۔ بَزْل: سوراخ، چھید، مواد نکالنا۔ بُـــزَل: (لکڑے کے پیپے) کا ڈاٹ۔ مِبْزَل جمع مَبَازِل: ڈاٹ، ٹونٹی۔

○ بِزِلَة و بِزِلاَّ: سبز مٹر۔

بزم: بَزَمَ ـ بَزْمًا عليه: کو آگے کے دانتوں سے کاٹنا۔ ـ بالشيء: کو اٹھانا۔ ـ فلانًا ثوبَهُ: کے کپڑے لوٹ لینا۔ ـــ الناقةَ: اونٹنی کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دوہنا۔ ـــ وتَرَ القوس: کمان کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کھینچ کر چھوڑنا۔ البَـزِيـم: کھجور کی چھال یا پتہ جس سے ترکاری کا منہ باندھا جائے، ہانڈی کے پیندے میں گوشت کے سوا باقی ماندہ شوربا۔

○ ابزيم جمع اَبَازِيم: بکسوا، بکلس۔

○ بِزْمُوت: ایک قسم کی دھات، پھول کانسی۔

○ بِزَنْطی: بازنطینی باشندہ یا طرز تعمیر by zantine۔

بزا: بَزَا ـ بَزْوًا عليه: پر دراز دستی کرنا۔ ـــ ہ و أَبْزَاہ و أَبْزَى عليه: پر غالب آنا۔ بَزَا و بَزِى يَبْزَى بَـزًا و أَبْزَى إِبْزَاءً: ابھرے ہوئے سینے اور دبی ہوئی کمر والا ہونا صفت: أَبْـزَى مـؤنـث بَـزْوَاء۔ تَبَـازَى: باز سے مشابہ ہونا۔ سرین ہلاتے ہوئے چلنا۔ البَزْو: مثل، نظیر۔ البَزِى: دودھ پیتا بچہ۔ کہا جاتا ہے: هو بَزِيى: وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ البَزَاء: شیخی، ڈینگ۔ البـاز و البَازِى: باز (پرندہ)۔

○ بازٍ جمع بُزَاة و بَوَازٍ و بِيزان: باز، شکرہ، شاہین۔

بسّ: ۱۔ بَسَّ ـ بَسًّا الإِبلَ: اونٹوں کو نرمی سے ہانکنا اور بس بس کہنا۔ اَبَسَّ الابلَ: اونٹوں کو نرمی سے ہانکنا اور بس بس کہنا۔ ـــ بالناقة: دوہنے کے لئے اونٹنی کو چکارنا۔ اِنْبَسَّ: بہنا۔ بِس بِس و بُس بُس: بکریوں اور اونٹوں کو بلانے یا دھمکانے کا کلمہ۔ بَس۔ البَسُوس جمع بُسُس: وہ اونٹنی جو بغیر بس بس کہنے کے دودھ نہ دے۔

۲۔ بَسَّ ـ القومَ عنه: لوگوں کو دھتکار دینا۔ اِنْبَسَّ: ایک طرف ہٹنا۔ بَسّ: اسم فعل بمعنی بس۔

۳۔ بَسَّ ـ المـالَ فی البلاد: مال کو ملک میں پھیلا دینا۔ ـ عقاربَهُ: اپنی چغلخوریاں بھیج دینا۔

۴۔ بَسَّ ـ السـويـقَ: ستو میں گھی یا تیل ملانا۔ البَسِيسَة: گھی یا زیتون میں ملا ہوا آٹا یا ستو۔ عام لوگ اسے مسیمہ کہتے ہیں۔

۵۔ البَسُّ و البِس جمع بساس (ح): ابلا، کوشش۔ البَسِيس: تھوڑا سا کھانا۔ البَسُوس: جساس بن مرۃ البکری کی خالہ جس کی وجہ سے بنی بکر و بن تغلب کے درمیان وہ جنگ ہوئی جو حرب بسوس کے نام سے مشہور ہے۔ اور نحوست کے بارے میں ضرب المثل [illegible] کہا جاتا: اشأم [illegible] سے زیادہ منحوس۔

۶۔ بَسْبَسَ بالغنم او الابل: بکریوں اور اونٹوں کو بس بس کہہ کر بلانا۔ ـــ به: کسی سے بس کہنا (یعنی اتنا ہی کافی ہے)۔ البَسْبَس جمع بَسَابِس: بے آب وگیاہ زمین، بیابان۔ تُرَّهات البَسَابِس و التُرَّهَاتُ البَسَابِسُ: باطل اور جھوٹی باتیں۔

○ بَسَأَ ـ بَسْأً ب: کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرنا، کا گہرا یا جگری دوست ہونا، سے بے تکلف مراسم ہونا۔

○ بسارابيا: Bessarabia۔

○ بَسْبَاس و بَسْبَاسَة: جوتری، جاوتری mace، سونف، سویا (fennel)۔ بَسْبُوسة: آٹا، پگھلے ہوئے مکھن، چینی اور تیل سے بنا ہوا سموسہ۔

○ بَسْتِيلِية: کوز، چوسنے والی میٹھی ٹکیاں (خواہ دوا کے طور پر)۔

بست: ۱۔ البُسْتَان جمع بسَاتِين: باغ۔ البُسْتَانِی: باغ والا، باغبان۔ ـــ من النبات: باغ میں لگائے ہوئے پودے (یعنی جنگلی پودے نہیں)۔

۲۔ بِسْتَرِيَنَه: (مسیحیوں کے ہاں) سال نو پر پیش کئے جانے والے تحائف (اٹلی زبان کا لفظ)۔

○ بَسْتَنَة: باغبانی، فن باغبانی۔

○ بِستمون و بِستن جمع بَسَاتِن: پسٹن (piston)۔ بَسْتُونی: (تاش میں) حکم۔

○ بَسْخَة: ایسٹر، عید الفصح۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مصائب بیان کرنے کا ہفتہ۔

بسر: ۱۔ بَسَرَ ـ بَسْرًا و بُسُورًا: ترشرو ہونا صفت: بَاسِر: اس لئے شیر کو بسور کہا جاتا ہے۔ اِبْتَسَرَ لونُهُ: کا رنگ کا متغیر ہونا۔

۲۔ بَسَرَ ـ بَسْرًا ہُ: پر غالب آنا۔ ـــ و أَبْسَرَ القرحَةَ: زخم سے مواد نکال کر پٹی باندھنا۔

۳۔ بَسَرَهُ ـ بَسْرًا: سے جلدی کرانا۔ ـــ النَخْلَةَ: کھجور کے درخت میں قبل از وقت قلم لگانا۔ ـــ و تَبَسَّرَ و اِبْتَسَرَ الحاجةَ: بے وقت حاجت طلب کرنا۔ أَبْسَرَ النخلُ: درخت خرما میں کھجوروں کا گدرا جانا۔ ـــ النخلةَ: کھجور کے درخت میں قبل از وقت قلم لگانا۔ البُسْر واحد بُسْرَة جمع بِسار: ادھ پکی کھجور، گدر کھجور۔

۴۔ بَسَرَهُ ـ و أَبْسَرَهُ النباتَ: کوتر گھاس چرانا۔ اِبْتَسَرَ الشيءَ: کو تازہ لینا۔ البُسْر: ہر تازہ شے۔

۵۔ اِبْتَسَرَ بالامر: کام شروع کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۶۔ البَسْر: ٹھنڈا پانی۔ کہا جاتا ہے: وجہٌ بَسْرٌ: ترش رو۔ الباسُور جمع بواسیر (طب): بواسیر کی بیماری۔ المَبْسُور: بواسیر کی بیماری میں مبتلا۔ المُبْسِرات: بارش کا پتہ دینے والی ہوائیں۔

○ بَسَرَ ، بُسُورًا: ناک بھوں چڑھانا، تیوری چڑھانا، غضب آلود نگاہوں سے گھورنا، چیں بجبیں ہونا، خفگی کی نگاہ سے دیکھنا، آنکھیں نیلی پیلی کرنا۔ بَسَرَ ، بَسْرًا و اِبْتَسَرَہ: کو وقت سے بہت پہلے شروع کرنا، قبل از وقت کارروائی کرنا، میں جلد بازی کرنا۔ بُسْر اسم جنس واحد بُسْرَۃ) جمع بِسار: گدر کھجوریں۔

بسط ۱۔ بَسَطَ ، بَسْطًا الرجلَ: کو خوش کرنا۔ بَسُطَ ، بَساطَۃً: بسیط ہونا، دراز ہونا، پر مزاح ہونا۔ باسَطَہ: سے خوش روئی و خندہ پیشانی سے بات کرنا۔ تَبَسَّطَ: گھومنا، سیر و تفریح کرنا۔ انبسط: پھیلنا، خوش ہونا، گھومنا، سیر و تفریح کرنا۔ البَسِیط جمع بُسَطاء: پر مذاق۔ بسیطُ الوجہ: کشادہ رو، ہنس مکھ۔

۲۔ بَسَطَ ، بَسْطًا الرجلَ: کا دل بڑھانا۔ تَبَسَّطَ و انبَسَطَ: جرأت کرنا، بے تکلف ہونا۔

۳۔ بَسَطَ ، بَسْطًا فلانًا علیہ: کو پر فضیلت دینا۔ — العذرَ: عذر ظاہر کرنا یا قبول کرنا۔

۴۔ بَسَطَ ، بَسْطًا الیدَ: ہاتھ پھیلانا۔ — السیفَ: تلوار سونتنا۔ — المکانُ القومَ: جگہ کا لوگوں کا اپنے اندر سمانا۔ تَبَسَّطَ و اِنْبَسَطَ: پھیلنا، دراز ہونا۔ — و بَسَّطَ الثوبَ: کپڑا پھیلانا۔ یدٌ بَسْطٌ و بُسُطٌ: کھلا ہوا ہاتھ۔ البَسِیط جمع بُسَطاء: وسیع و عریض زمین، پھیلا ہوا، دراز، کھلا۔ (بسیطُ الیدَین: سخی، فیاض۔ بسیطُ القلب: سادہ لوح) سطح جیسے: بسیط اُسطوانی: بیلن کی سطح۔ البَسَاط: چوڑی زمین، کشادہ زمین۔ البِساط جمع بُسُط: بچھونا، فرش۔ الباسِط: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ایک، بمعنی رزق میں کشادگی کرنے والا۔ الباسِطة: دور کی مسافت۔ البَسِیطَة: زمین، سطح زمین۔ البَسْطَة: وسعت۔ کہا جاتا ہے: زادَ بسطةً فی العلمِ و الجسمِ: وہ علم کی وسعت اور جسم کی طوالت اور کمال میں بڑھ گیا۔ بَسْطَةُ العیش: زندگی کی فراخی۔

۵۔ بَسَطَ ، بَسْطًا العملیات الجبریة من ضرب و جمع و غیرھا: ضرب جمع وغیرہ کے جبری عمل کو مکمل کرنا اور اس کی مقداریں مختصر کرنا۔ البسیط: مفرد (غیر مرکب)، شعر کی ایک بحر جس کا وزن: مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُن فَعِلُنْ ہے۔

۶۔ البَسْطُرْمَا: وہ گوشت جو لمبے لمبے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھایا گیا ہو (ترکی لفظ)۔

○ بَسَطَ ، بَسْطًا ہ: کو پھیلانا، ہموار کرنا، چپٹا کرنا، بڑھانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا، کھولنا، عطا کرنا، پیش کرنا۔ — ہ ل/علی: کی سے وضاحت کرنا، کو سے بیان کرنا، کو کی خدمت میں پیش کرنا۔ — ہ: کو کوڑے مارنا، ہیت لگانا، کو خوش کرنا، محظوظ کرنا۔ بسط دراعیہ: اپنے بازو پھیلانا۔ بَسَطَ یدًا المُساعَدَۃَ لِ: کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانا۔ بَسَطَ المائدَۃَ: دسترخوان لگانا، میز پر کھانا لگانا۔ بَسُطَ ، بَساطَۃً: سادہ ہونا، مخلص ہونا، مہربان ہونا، صاف دل ہونا، راستباز ہونا، ایماندار ہونا، صاف باطن ہونا، صاف گو ہونا۔ بَسَّطَ ہ: کو پھیلانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا، ہموار کرنا، چپٹا کرنا، کو سادہ کرنا، آسان بنا دینا۔ باسَطَ: واضح کرنا، بیان کرنا، پیش کرنا یا تفصیل سے سمجھانا۔ — ہ ب: کے ساتھ کے بارے میں یا میں مخلص ہونا، سے کا صاف صاف اعتراف کرنا۔ تَبَسَّطَ: پھیلنا، کھلا ہونا، لمبا ہونا، بڑا ہونا، وسیع ہونا۔ — فی: کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا، کو بڑا کرنا، (کسی موضوع) کو تفصیل سے پیش کرنا، (کسی موضوع) پر مکمل شرح سے کچھ کہنا، لکھنا یا اسے پیش کرنا۔ تَبَسَّطَ: دوستانہ یا بامروت ہونا، بے تکلفی سے باتیں کرنے والا ہونا، ملنسار ہونا، یار باش ہونا، بے تکلفانہ سلیقہ برتنا، مکمل آرام سے ہونا۔ تَبَسَّطَ فی الحدیث: آزادانہ گفتگو کرنا، کسی تکلف کے بغیر بات کرنا۔ اِنْبَسَطَ: پھیلنا، لمبا ہونا، بڑا ہونا، وسیع ہونا، خوش ہونا، خوش ہو جانا، مسرور ہونا۔ بَسْط: وسعت پھیلاؤ، کھلا ہونا، پیش کش، توسیع بیان، توضیح، تشریح، خوش ہونا، حظ، لطف، مزا، تفریح، کھیل، کسر میں خط کے اوپر کا عدد۔ بسط الید: لالچ، حرص طمع۔ بَسْطَة: وسعت، پھیلاؤ، توسیع، پہاڑی وسیع علاقہ، لمبائی، حد، حجم، ضخامت، جسامت، مہارت، قابلیت، اہلیت، ضرورت سے زیادہ، کثرت، افراط، فراوانی بہتات۔ جمع بسطات: بیان، تشریح، پیش کش (جمع بساط (سیڑھی کی) منزل (landing)، چبوترا، شہ نشین، [illegible] جمع بُسُط اُبْسِطَة و بُسُط: قالین، غالیچہ، نمدہ، موٹا کمبل۔ بِساطُ الرَّحْمَۃِ: کفن۔ طَرَحَ (وَضَعَ) مسألۃً علی بساطِ البحث (علی بساط المناقشۃ: زیر بحث مسئلہ کو بحث کے لئے اٹھانا، مسئلہ کو بحث کے لئے پیش کرنا۔ طوی البساط بما فیہ: معاملہ ختم کرنا، معاملہ کو ہمیشہ کے لئے طے کرنا۔ بَسِیط جمع بُسَطاء: سادہ، صاف، واضح، غیر پیچیدہ، تھوڑا، سیدھا سادھا، معمولی، نا قابل لحاظ، نا قابل غور، خفیف، ادنی، چھوٹا، سطحی، ادنی سا، ذرا سا، ایک شعری بحر کا نام جمع بُسَطاء: سادہ روحیں، سیدھے سادھے لوگ، صاف گو لوگ۔ بَسِیطُ الیدین جمع بُسُطُ الیدین: سخی، فیاض۔ البسیطة: زمین، دنیا۔ بَسَائِط: عناصر، سادہ علاج، طبی پودے، بنیادی حقائق۔ بَساطَة: سادگی، ہمواری، یکسانیت، وضاحت، سچائی۔ اُبْسُوطة جمع أباسِیط: پہیے کا بیرونی حلقہ، رم rim۔ اَبْسَط: زیادہ سادہ، زیادہ چوڑا، زیادہ لمبا چوڑا، یا کشادہ یا فراخ، یا بڑے رقبہ کا یا زیادہ پھیلا ہوا۔ انبساط (واحد انبساطة): کشادگی، فراخی، پھیلاؤ، وسعت، وسیع رقبہ، خوشی، سرور، چہل، دل لگی، خوش طبعی، شگفتہ مزاجی شادمانی، خوش مزاجی، زندہ دلی۔ عضلَة باسِطة: جسم کے کسی حصہ کو پھیلانے یا سیدھا کرنے میں مدد پٹھا۔ مَبْسُوط: پھیلا ہوا، توسیع دیا ہوا، لمبا چوڑا، کشادہ، فراخ، دور تک پھیلا ہوا، بڑا، کافی بڑا، مفصل، خوش، اچھی صحت والا، خوش حال، آسودہ حال۔ مُنْبَسِط: پھیلا ہوا، خوش، شاداں، مسرور، ہموار سطح۔

○ البسفور: باسفورس (جزیرہ)

بسق: ۱۔ بَسَقَ ، بُسْقًا: بمعنی بصق (تھوکنا)۔

۲۔ بَسَقَ ، بُسُوقًا النخلَ: کھجور کے درخت کا لمبے تنے اور لمبی ٹہنیوں والا ہونا صفت: باسِق۔ — اصحابَہُ و علی اصحابہ: اپنے ساتھیوں پر فضیلت میں برتر ہونا۔ بَسَّقَہُ: کو لمبا کرنا۔ تَبَسَّقَ: لمبا ہونا۔

۳۔ الباسِقَة جمع بَوَاسِق: مصیبت، صاف رنگ کا سفید بادل۔ بَوَاسِقُ السحاب: پہلے آنے والے بادل۔

○ بَسَقَ ، بُسُوقًا: اونچا ہونا، بلند ہونا، لمبا ہونا، سر بفلک ہونا۔ — ہ/علی: پر فائق ہونا، سے بڑھ جانا، سبقت لیجانا، بازی لیجانا، پر شرف، فضیلت یا فوقیت رکھنا۔ باسِق: بلند، اونچا، سر بفلک۔ مُبْسِق:

makfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بلند، اونچا، سربفلک۔

○ بِسْكِلِيت: بائی سائیکل (فرانسیسی لفظ)۔

○ بِسْكُوت: بسکٹ (اٹلی زبان کا لفظ)۔

○ بِسْكَوِيت: بسکٹ۔

بسك: ۱- البِسْكُوتِي: خشک روٹی، فوجی اور ملاحوں کے لئے بسکٹ۔

۲- البَسِيكُولُوجيا: نفسیات Psychology۔ علم نفس یا علم فلسفہ عقلیہ (یونانی لفظ)۔ السِيكولوجيا: بمعنی بالا۔

بسل: ۱- بَسَلَ ـُ بُسُولا الرجلُ: غصہ یا بہادری سے تیوری چڑھانا صفت: بَسْل و بَسِيل۔ بَسُلَ ـُ بَسَالاً و بَسَالَةً: بہادر ہونا صفت: بَسُول و بَاسِل جمع بُسَّل و بُسَلاء و بُسْل بَسَّل و اِبْتَسَلَ نفسَهُ للموت: اپنے آپ کو موت کے لئے پیش کرنا، تیار کرنا۔ اَبْسَلَ نفسَه للموت: اپنے آپ کو موت کے لئے تیار کرنا۔ ــــ ہ: کو ہلاکت کے سپرد کرنا۔ ــ ہ لكذا: کو کے لئے پیش کرنا۔ بَاسَلَهُ: پر لڑائی میں حملہ کرنا۔ تَبَسَّل: غصہ یا بہادری سے تیوری چڑھانا، ترش رو ہونا۔ اِسْتَبْسَلَ: مرنے یا مارنے کے لئے لڑائی میں گھس جانا۔ البَسَالَة: شجاعت، بہادری۔ البَاسِل جمع بَوَاسِل: شیر۔ کہا جاتا ہے: يومٌ باسِل و غضبٌ باسِلٌ: سخت دن اور سخت غصہ۔

۲- بَسَلَ ـُ بُسُولا النبيذُ: نبیذ کا تیز ہو جانا۔ البَسْل: تلخی۔ البَسِيل: برتن میں باقی رہ جانے والی نبیذ۔

۳- بَسَلَ ـُ بُسُولاً اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہو جانا۔

۴- بَسَلَهُ ـ بَسْلاً: کو ملامت کرنا۔

۵- بَسَلَهُ ـ بَسْلاً عن حاجته: کو اس کی حاجت سے منع کرنا، روکنا، کو حلال ٹھہرانا، جائز قرار دینا (ضد) اَبْسَلَ اللّٰهُ الشيءَ: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ البَسْل: حلال۔ حرام (ضد)۔ (اس میں واحد، جمع مذکر، مونث یکساں ہیں)۔ کہا جاتا ہے: هذا بَسْلٌ عليك: یہ تم پر حرام ہے۔ کہا جاتا ہے: بسلاً لَهُ: اس کے لئے خرابی ہو۔ البَسِيل: حرام۔

۶- بَسَّلَهُ: کو متنفر کرنا۔ البَسِيل: بدشکل۔ البَسَالَة: کراہت، نفرت۔

۷- اَبْسَلَهُ: کو رہن رکھنا۔

۸- البِسِلّی (ن): ایک قسم کی بوٹی۔

○ بَسُلَ ـ بَسَالَةً: نڈر ہونا، بہادر ہونا، بے خوف ہونا، دلیر ہونا۔ تَبَسَّلَ: تیز تیز نظروں سے دیکھنا، قہر آلود نگاہیں ڈالنا، گھورنا، کڑے تیوروں سے دیکھنا۔ اِسْتَبْسَل: بے احتیاط ہونا، عاقبت نااندیش ہونا، لاپرواہ ہونا، موت کو للکارنا، موت کو خاطر میں نہ لانا۔ بَسَالَة: جرأت، بے خوفی، دلیری۔ استبسال: موت کو دعوت۔ بَاسِل جمع بُسَلاء و بَوَاسِل: بہادر، نڈر، دلیر۔ مُسْتَبْسِل: موت کو دعوت دینے والا، موت کو للکارنے والا۔

○ بِسْلَة: مٹر۔

بسم: ۱- بَسَمَ - بَسْمًا و تَبَسَّمَ و اِبْتَسَمَ: مسکرانا۔ صفت: بَاسِم و مُبْتَسِم۔ المَبْسِم جمع مَبَاسِم: دانت، منہ۔ البَسَّام و المِبسام: بہت مسکرانے والا۔

۲- بَسْمَلَ: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہنا۔ البَسْمَلَة (عند النصارى): بسم الآب والابن وروح القدس: باپ بیٹے اور روح القدس کے نام کے ساتھ عند المسلمين: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم: اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

○ مَبْسِم جمع مَبَاسِم: منہ، دہن، مکھ، دہانہ، مہنال (سگار یا سگریٹ) ہولڈر۔

○ بَسَمَ - بَسْمًا و تَبَسَّمَ و اِبْتَسَمَ: مسکرانا۔ بَسْمَة جمع بَسَمات: مسکراہٹ۔ بَسَّام: مسکرانے والا، ابتسام و ابتسامه جمع ابتسامات: مسکراہٹ۔

بسن: اَبْسَنَ: خوش ہیئت و خوش شکل و خوش وضع ہونا۔

○ بُسَيْنَة: بلی کے بچے کا پیار کا نام۔

○ بَسِيكُولُوجِي: نفسیاتی۔

بش: ۱- بَشَّ ـ بَشًّا و بَشَاشَةً: ہنس مکھ ہونا، خندہ پیشانی ہونا۔ ــ للشيء: کو دیکھ کر فرحاں و شاداں ہونا۔ ــ بالصديق: دوست کو دیکھ کر خوش ہونا صفت: بَشّ و باشّ و بَشُوش و بَشَّاش۔ اَبْشَتِ الارضُ: نباتات کا کسی زمین میں شاخ در شاخ اور گنجان ہونا، آپس میں گتھ جانا۔

۲- بَشْبَشَ الرجلُ: خوشی و مسرت کا اظہار کرنا۔ تَبَشْبَشَ به: سے خندہ پیشانی سے ملنا۔

○ بَشَّ ـ بَشًّا و بَشَاشَةً: دوستانہ خوشگوار اور خوش انداز کا مظاہرہ کرنا، مسکرانا۔ ــ ل: سے دوستی کا برتاؤ کرنا، کو دیکھ کر متبسم ہونا۔ بَشُوش و بَشَّاش: متبسم، مسکرانے والا، دوستانہ، خوش باش، شادمان۔ بَشَاشَة: مسکراہٹ، خوش انداز۔ ... باش: مسکرانے والا، مسکراتا ہوا، دوستانہ، مہربان۔

بشت: البُشْتُخْتَة: صندوقچہ (ترکی لفظ)۔

○ بُشْت: عباء، ایک قسم کا لبادہ یا چوغہ۔

○ بِشْتَة: مصری کسانوں کا اونی لبادہ۔

بشر: ۱- بَشَرَ ـُ بَشْرًا الجلدَ: کھال چھیلنا۔ ــ الشاربَ: مونچھ مونڈ کر کھال ظاہر کرنا۔ ــ الجرادُ الارضَ: ٹڈی کا زمین کی ساری روئیدگی کو چٹ کر جانا۔ اَبْشَرَ الشيءَ: کو چھیلنا۔ البَشَرَة جمع بَشَر: کھال کا اوپر کا رخ۔ البُشَارَة: اترا ہوا چمڑہ۔ المِبْشَرَة: چھیلنے کا آلہ، عام لوگ اسے مبرشه کہتے ہیں۔

۲- بَشَرَ ـُ بَشْرًا الأمرَ: کام پر توجہ دینا، کام سنبھالنا، کام کو ہاتھ میں لینا۔ بَاشَرَ الأمرَ: کو خود سنبھالنا۔

۳- بَشَرَ - و بَشِرَ - و اَبْشَرَ و اِسْتَبْشَرَ به: سے خوش ہونا۔ کہا جاتا ہے: بَشَرَنِي بوجهٍ حَسَنٍ: ”مجھ سے خندہ پیشانی سے ملا“۔ بَشَّرَهُ: کو خوش کرنا، خوش خبری سنانا۔ اَبْشَرَ فلانًا: کو خوش خبری سنانا۔ ــ الامرُ وجهَهُ: کام کا چہرے کو حسین اور پر رونق بنا دینا۔ بَاشَرَهُ النعيمُ: پر نعمتوں کا ٹوٹ پڑنا اور امنڈ آنا۔ تَبَاشَرُوا بالأمر: ایک دوسرے کو کسی امر کی خوش خبری دینا۔ البِشْر: خندہ پیشانی، کشادہ روئی۔ البشير جمع بُشَرَاء: خوشخبری دینے والا۔ البُشْرَى جمع بُشْرَيَات او البِشَارَة جمع بِشَارات و بَشَائر: خوش خبری۔ بشارة الانجيل: بیان کا اضافہ ہے کیونکہ یونانی میں انجیل کا معنی ہی بشارت ہے۔ البَشَارَة جمع بشائر: حسن و جمال۔ کہا جاتا ہے: بشائرَ الوجه: چہرے کے سنگار کا سامان غازہ (گلگونہ۔ بشائِر الصبح: آغاز صبح۔ البُشَارَة: خوش خبری دینے والے کو دیا جانے والا عطیہ۔ التباشير: خوش خبری، ہر شے کی ابتداء۔ تباشير الصبح: صبح کی پہلی جھلک۔

۴- اَبْشَرَتِ الارضُ: زمین کا اگانا۔ البَشَرَة جمع بَشَر: گھاس پات، سبزی ترکاری، جڑی بوٹیاں۔

۵- بَاشَرَ المرأةَ: عورت سے مباشرت کرنا۔

۶- البَشَر: انسان (مذکر، مونث واحد جمع) ابو البشر: آدم علیہ السلام کی کنیت۔ ابن البشر: حضرت مسیح علیہ السلام کا لقب (نصاریٰ کے ہاں)۔

○ بَشَرَ - و بَشِرَ ـ ب: پر خوش ہونا، محظوظ ہونا، مسرور ہونا۔ بَشَّرَہ ب: کو کی خوشخبری دینا۔ ــ ب: کو پھیلانا، کی اشاعت کرنا، کی تلقین کرنا، نصیحت کرنا، پر وعظ کہنا، کو ذہن نشین کرنا، کی دعوت دینا، تبلیغ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا۔ بَشَّرَ نفسه ب: اس خوش امیدی میں مشغول ہونا کہ، جائز یا روا رکھنا کہ۔ أَبْشَرَ: خوش خبری پر خوش ہونا۔ اِسْتَبْشَرَ ب: پر خوش ہونا، مسرور ہونا، محظوظ ہونا، کو خوش آمدید کہنا، کو اچھا شگون خیال کرنا۔ اِسْتَبْشَرَ به خیراً: کو مبارک و مسعود سمجھنا۔ بِشْر: فرحت، خوشی، مسرت، شادمانی، طرب، سرور، انبساط، باعث انبساط، مایہ شادمانی۔ بُشْر: خوش خبری۔ بُشْرَى: خوشخبری، نوید مسرت، مژدہ بشارة جمع بشارات و بَشَائِر: خوش خبری، نوید مسرت، شہرت، اعلان، پیشین گوئی، مسلک، عقیدہ ایمان، شریعت عیسیٰ علیہ السلام۔ بشائر: اچھی فالیں، اچھے شگون، مبارک و مسعود شگون یا اشارے۔ عيدُ البشارة: بشارت، تبشیر، حضرت مریم کا تہوار۔ بَشِير جمع بُشَرَاء: خوش خبری یا نوید مسرت لانے والا، پیغامبر، منادی، آمد آمد کی خبر دینے والا، نقیب، پیش خیمہ، پیش رو، مستقبل کی نشاندہی کرنے والی چیز، انجیل نویس، انجیل آموز۔ تبشیر: خوشخبری یا نوید مسرت کا اعلان، انجیل کی تلقین یا دعوت، تبلیغ انجیل، تبلیغی سرگرمی۔ تبشیری: تبلیغی، تبلیغی ادارے کا۔ تَبَاشِير: آنے والے واقعہ کی طرف اشارے، پیش خیمے، پیش بنی، پیشگی خبر دینے والی علامات، شگون، پہلی علامات، نقباء، پیش رو، پیام رساں، آغاز، شروعات۔ تباشير الفجر: فجر کی پہلی جھلک، نور کے تڑکے کی پہلی ٹمٹماہٹیں یا جھمکیں۔ مُبَشِّر جمع مُبَشِّرُون: اعلان کنندہ، پیام رساں (نوید مسرت کا)، انجیل نویس، مبلغ، واعظ، تبلیغی جماعت کا فرد۔ مُسْتَبْشِر: خوش، شادمان، شاد۔

۲۔ بَشَرَ ـ بَشْرًا ه: کو چھیلنا، کا چھلکا اتارنا، کو مقشر کرنا، کی کھال کھینچنا، کو مونڈنا، کھرچنا، رگڑ کر صاف کرنا، رگڑنا، گھسنا، کو کدوکش پر چھیلنا، پرزے پرزے کرنا، کی دھجیاں اڑانا۔ بَاشَرَ ه: کو چھونا، کے ساتھ براہ راست رابطہ میں ہونا۔ ـــ ه: کے ساتھ جنسی راہ و رسم رکھنا، سے مباشرت کرنا، جماع کرنا۔ ـــ ه/ب: پر توجہ دینا، پر محنت کرنا، کی دھن میں لگے رہنا، پر کامل توجہ کرنا، کو ہاتھ میں لینا، کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا، کو حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنا، کو بجالانا۔ بَشَر: انسان، لوگ، نوع انسانی، نسلِ انسانی، سب انسان۔ بَشَرِي: انسانی، جلدی، کھال کا۔ طبيب بشري: امراض جلد کا طبیب، ساخت جلد کا ماہر۔ بَشَرَة: بیرونی جلد، اوپری جلد یا کھال، جلد کا اوپر کا پرت، چھال، پوست، چمڑا، بالائی جلد، جلد، کھال، چمڑہ، رنگ روپ، صورت، جسم یا چہرے کا رنگ۔ بَشَرِيَة: نوع انسانی، نسل انسانی۔ مِبْشَرَة جمع مَبَاشِر: کھرچنے یا چھیلنے کا اوزار، کدوکش۔ مُبَاشَرَة: مشغلہ، کسی چیز کے حصول کی کوشش، عملی کام، براہِ راست طبعی سبب، علت یا باعث۔ مُبَاشَرَةً: فوراً، بلا تاخیر، براہِ راست، فی الفور۔ مَبْشُور: جُبْنَةٌ مَبْشُورَةٌ: ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا پنیر۔ مُبَاشِر جمع مُبَاشِرُون: براہِ راست، فوری، پریکٹیشنر Practioner، درپے ہونے والا، مشین چلانے والا، منتظم، ناظم، کارندہ، کارکن، کارپرداز، کرتا دھرتا، صاحب عدالت، دربان عدالت، شاف سارجنٹ staff sargeant۔ غيرُ مُبَاشِر: بتوسط، بہ واسطہ، ضمنی، ذیلی، بالواسطہ۔ اصاباتٌ مُباشرة: براہ راست ضربیں۔

○ بَشَرُوس: لال لم ڈھینگ flamingo۔

بشع: ۱۔ بَشِعَ ـ بَشَعًا و بَشَاعَةً الشيءُ والمرءُ: چیز کا بدمزہ اور مرد کا بدشکل ہونا۔ تَبَشَّعَ: چیز کا بدمزہ اور مرد کا بدشکل ہونا، بدمزدگی ظاہر کرنا۔ اِسْتَبْشَعَهُ: کو بے مزہ یا بدشکل پانا یا سمجھنا۔

۲۔ بَشِعَ ـ فلانٌ بالامر: سے ضیق و تنگی میں ہونا۔

بَشِع و بشيع: بدمزہ (چیز) بدشکل آدمی۔

○ بَشُعَ ـ بَشَاعَةً: بدشکل ہونا، قابل نفرت ہونا۔ بَشَّعَ ه: کو بدشکل کرنا، کی شکل بگاڑنا، کی صورت بگاڑنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کی تحقیر کرنا، کو گھٹا کر دکھانا، کی برائیاں کرنا۔ اِسْتَبْشَعَ ه: کو بدشکل سمجھنا، کو بدشکل یا سخت ناپسند پانا۔ بَشِع و بَشِيع: بدشکل، بدصورت، خراب، ناپسندیدہ، ناگوار، نفرت انگیز، مکروہ، سخت ناپسند، ناخوش گوار۔ بُشَاعَة: بدصورتی، بھونڈا پن۔ أَبْشَع: کہ زیادہ بدصورت، گھناؤنا، مکروہ، تنفر آفریں یا سرد مہری کا یا بے رخی کا۔

بشق: بَشَقَ ـ و بَشِقَ ـ بَشْقًا ه بالعصاء: کو لاٹھی سے مارنا۔ الباشق جمع بَوَاشِق (ح): ایک چھوٹا شکاری پرندہ۔

بشك: بَشَكَ ـ بَشْكًا: جلدی کرنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے میں دور دور ٹانکے لگانا۔ ـــ في عمله: کام بگاڑنا۔ ـــ الخبرَ: خبر گھڑنا۔ اِبْتَشَكَ: جھوٹ بولنا۔ ـ الكلامَ: بات گھڑ لینا۔ البَشَّاك: بڑا جھوٹا۔

○ اِبْتَشَكَ: جھوٹ بولنا، حیلہ بہانہ کرنا، ہیر پھیر کرنا، [illegible] کرنا، مطلب کی بات [illegible] کرنا۔ بَشَّاك: جھوٹا۔ ابتشاك: جھوٹ، دھوکا، فریب، دغا۔

○ بَشْكُور جمع بَشَاكِير: آگ کریدنی۔

○ بَشْكِير جمع بَشَاكِير: تولیہ، صافی۔

○ بِشْلَة جمع بِشْلات: جرثومہ جمع جراثیم۔

بشم: بَشِمَ ـ بَشَمًا من الشيء: سے اکتا جانا صفت: بَشِم ـــ من الطعام: کھانے سے بدہضمی ہونا۔ أَبْشَمَهُ الطعامُ: خوراک کا کسی میں بدہضمی پیدا کرنا۔ البَشَام واحد بَشَامَة (ن): ایک خوشبودار درخت جس کی لکڑی سے خلال بنایا جاتا ہے اور پتوں سے بال کالے کئے جاتے ہیں، دوا فروش اسے حب البلسان کہتے ہیں۔

○ بَشِمَ ـ بَشَمًا من: سے گھن آنا، جی متلانا، متنفر ہونا، اکتا جانا۔ أَبْشَمَ ه: کا جی متلانا، کو بیمار کرنا، بیزار کرنا، میں نفرت پیدا کرنا۔ بَشَم: پرخوری، جی بھرا ہونا، بہت زیادہ شکم سیری، نفرت، تنفر، کراہت۔

○ بَشْمَار: زری وغیرہ کا کام، گوٹ، لیس، فیتہ، کناری وغیرہ۔ بَشَامِري: زری کا کام کرنے والا، گوٹ، لیس، فیتہ، کنارا، وغیرہ بنانے والا۔

بَشْمَق: سلیپر (فقہاء اور عورتوں کے)

○ بَشْنَة: باجرہ، کنگنی، کاکن، سانواں، جوار۔

○ بَشْنَس: قدیم مصری تقویم کا نواں مہینہ۔

○ بَشْنُوقة جمع بَشَانِيق: رومال جو ٹھوڑی کے نیچے باندھا جاتا ہے۔

○ بَشْنِين: کنول۔

بصّ: ۱۔ بَصَّ ـ بَصِيصًا و بَصًّا: چمکنا، جگمگانا۔ بَصَّصَ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کی پہلی روئیدگی اگنا۔ ـ الشجرةُ: درخت کی کونپل نکلنا۔ البَصِيص: چمک دمک۔ البَصَّاصَة: آنکھ۔

۲۔ بَصَّ ـ بَصِيصًا و بَصًّا الماءُ: پانی کا رسنا۔ ـــ لي بيسير: اس نے مجھے تھوڑا دیا۔

۳۔ بَصْبَصَ بَصْبَصَةً: بمعنی بَصَّصَ۔ ـ فلانٌ: چاپلوسی کرنا۔ ـــ الكلبُ: کتے کا دم ہلانا۔ تَبَصْبَصَ الكلبُ: کتے کا دم ہلانا۔

○ بَصَّ ـ بَصًّا و بَصِيصًا: چمکنا، دمکنا، دیکھنا۔ بَصَّة: انگارے۔ بصيص: چمک، دمک، جھلک، (امید کی) کرن، چمک دار، تابندہ، درخشاں۔ بَصَّاص: چمک دار تابندہ، درخشاں، جاسوس، سراغ رساں۔

بَصْبَصَ بَصْبَصَةً بِذَنَبِهِ: دم ہلانا، کسی کو پیار بھری

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نظروں سے دیکھنا، محبت بھری نظروں سے دیکھنا۔

بصر ا۔ بَصُرَ ۔ و بَصِرَ ۔ بَصَرًا و بَصَارَةً: کو دیکھنا۔ بَصَّرَ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنا۔ أَبْصَرَهُ: کو دیکھنا، کو بینا کرنا۔ بَاصَرَ الشيءَ: کو دور سے جھانک کر دیکھنا۔ تَبَصَّرَ الشيءَ: کی طرف بغور دیکھنا۔ — في الشيء: میں سوچ بچار کرنا، غور کرنا۔ تَبَاصَرُوا: کسی چیز کو پہلے دیکھنے میں مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا۔ إسْتَبْصَرَ الأمرَ: کو اچھی طرح دیکھنا۔ — فيه: پر سوچ بچار کرنا، غور و خوض کرنا۔ البَصَر جمع أبْصَار: قوت بصارت، آنکھ۔ (کہا جاتا ہے: أتَيْتُهُ بين سمعِ الارض و بصرها: میں اس سے ایسے تنہا مقام پر ملا کہ صرف زمین ہی میری بات سنتی اور مجھ کو دیکھتی تھی)۔ البَاصِرَة جمع بَوَاصِر: آنکھ۔ کہتے ہیں: خير العشاء بواصِرُهُ: بہتر کھانا وہ ہے جو تاریکی سے پہلے کھایا جائے۔ المُبْصِر: نگہبان۔ کہا جاتا ہے: رتَّبتُ على بستاني مُبْصِرًا: میں نے اپنے باغ کے لئے ایک نگہبان مقرر کیا۔

۲۔ بَصُرَ ۔ و بَصِرَ ۔ بَصَرًا و بَصَارَةً و به: کسی چیز کو جاننا۔ بَصَّرَهُ الامرَ: کو کوئی بات بتانا۔ — له: کو اس کی قسمت بتانا۔ البَصَر جمع أبصار: علم۔ علمُ البَصَرِيات (ف): نور کے قوانین، بصریات، علم بصارت۔ البَصِيرَة جمع بَصَائِر: عقل، زیرکی، عبرت۔ المُبَصِّر: قسمت دیکھنے والا۔ البَصَّارَة: قسمت دیکھنے والا۔ التَبْصِير: قسمت دیکھنا۔

۳۔ بَصَرَ ۔ بَصْرًا الشيءَ: کو کاٹنا۔

۴۔ أَبْصَرَ الطريقُ: راستہ کا ظاہر و واضح ہونا۔ إسْتَبْصَرَ الأمرُ: ظاہر و آشکارا ہونا۔ — الامرَ: کو ظاہر و آشکارا کرنا۔ البَصِيرَة جمع بَصَائِر: حجت، شاہد۔ کہا جاتا ہے: جوارحه بصيرة عليه: اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہ ہیں۔ فراسة ذات بصيرة: سچی فراست۔ المُبْصَر و المُبْصَرَة: واضح اور کھلی دلیل۔

۵۔ أبْصَرَ الرجلُ: آدمی کا بصرہ میں آنا۔ بَصَّرَ: بصرہ میں آنا۔ البَصْرَة: نہر فرات اور دجلہ کے دوآبے کے مغربی کنارہ پر ایک شہر کا نام ہے۔ البصرتان: کوفہ و بصرہ۔ — جمع بِصار (ط ا): سخت و کرخت زمین، پتھریلی دار اور لیس دار زمین۔

○ بَصُرَ ۔ و بَصِرَ ۔ بَصَرًا: دیکھنا۔ — ب: کا ادراک کرنا، کو سمجھنا۔ بَصَّرَهُ ہ/ب: کو کوئی چیز دکھانا، سمجھانا، حاصل کروانا، کو سے آگاہ کرنا، کو پر یا کے بارے میں روشن خیالی عطا کرنا، کو کے بارے میں مطلع کرنا، کو کی اطلاع دینا۔ أبْصَرَ ہ/ہ: کو دیکھنا، سمجھنا، کو دور سے دیکھ کر اندازہ لگانا، کو بصارت یا بصیرت سے صاف صاف دیکھ لینا، بھانپ لینا، پہچان لینا، دیکھ لینا، پہچان لینا۔ — في: کو بغور سوچنا۔ — ب: پر غور و فکر کرنا۔ تَبَصَّرَ ہ: کی طرف دیکھنا، کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ — في: پر غور کرنا، غور و فکر کرنا۔ إسْتَبْصَرَ: مرئی اور ادراک کی حس یا صلاحیت کا حامل ہونا، دیکھنے کی قابلیت رکھنا، سمجھ کی ودیعت والا، معقول ہونا، عاقل ہونا، ذہین ہونا سمجھ دار ہونا۔ — في: پر غور و خوض کرنا، پر غور کرنا۔ بَصَر جمع أبْصَار: تصور، فراست، دوراندیشی، نظر، بصارت، سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر، دقت نظر، بصیرت، ادراک، شناخت، فہم، نکتہ رسی۔ قَصِيرُ البَصَر: جسکی دور کی نظر کمزور ہو۔ لمح البصر: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر۔ في لمح البصر، كلمح البصر، دون لمح البصر، في اقل من لمح البصر: پلک جھپکتے میں، ایک لحہ میں، چشم زدن میں، فی الفور۔ على مدى البصر: نظروں میں، جسے دیکھا جا سکے۔ له بَصَرٌ ب: وہ اس سے واقف ہے۔ بَصَرِي: بصری، مرئی، آنکھوں کا، آنکھوں کے متعلق۔ بَصَرِيَّات: بصریات، علم بصارت۔ بَصَارَة: ادراک، شناخت، فہم نکتہ رسی، بصیرت، فراست، ذہن کی تیزی، ذہانت، تیز فہمی۔ بَصِير جمع بُصَراء: آنکھوں والا، دیکھنے والا۔ — ب: سے پوری طرح واقف، میں پرکھ رکھنے والا، کا عالم، کو سمجھنے والا، میں ماہر، سے واقف۔ بَصِيرَة جمع بَصَائِر: بصیرت، دقت نظر، فہم، تیز فہمی، فراست، ادراک، شناخت، نکتہ رسی، ذہنی اور ادراک کی قوت، ذہنی تصور، فراست، دوراندیشی۔ عن بَصِيرَةٍ: جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ۔ كان على بصيرة من: کسی شئے کے بارے میں دقت نظر رکھنا، کے متعلق مطلع ہونا، آگاہ ہونا۔ نَافِذُ البصيرة: صاحب فہم و بصیرت، صاحب ادراک، زکی، تیز فہم۔ نَفَاذُ البصيرة: تیز ادراک، یا فہم، یا نکتہ رسی یا بصیرت، بصیرت، فراست۔ أبْصَر: زیادہ صاحب فہم و بصیرت، زیادہ صاحب ادراک۔ تَبْصِرَة: روشن خیالی، اطلاع، احکام، ہدایات۔ تَبَصُّر: غور و [illegible] نگاہی۔ باصِرة جمع بَوَاصِر: آنکھ۔

بصع: ا۔ بَصَعَهُ ۔ بَصْعًا: کو جمع کرنا۔

۲۔ بَصَعَ ۔ بَصْعًا الماءُ: پانی کا بہنا یا رسنا۔ البَصْع: تنگ سوراخ۔ البصيع جمع بُصُع: پسینہ۔

۳۔ البَصْع: انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ۔ البِصْع: رات کا ایک پہر۔ الأبْصَع د بَصْعاء جمع أبْصَعُون و بُصَع: احمق۔ یہ لفظ تاکید کے لئے بھی آتا ہے۔ جیسے: اخذت حقي أجمع أبْصَع: میں نے اپنا حق پورا پورا لے لیا۔ (أبْصَع کو اجمع سے پہلے لانا جائز نہیں)۔

بصق: بَصَقَ ۔ بَصْقًا: تھوکنا۔ البُصَاق: تھوک۔ باصقات اللّهَب واحد باصقة: جنگی ہتھیار جو جلتا ہوا مائع پھینکتے ہیں جس سے جہاں وہ گرے آگ لگ جاتی ہے۔

○ مِبْصَقَة: پیک دان، اگالدان۔

بصل: بَصَّلَ و تَبَصَّلَ ہ من ثيابه: کے کپڑے اتارنا۔ تَبَصَّلَ القِشرُ: چھلکے کا موٹا ہونا۔ البَصَل (ن): پیاز۔ البَصَلَة: ایک پیاز، گنٹھی، گانٹھ، لوہے کا خود۔ خرجوا كأنهم الأصل وعلى رؤوسهم البَصَل: وہ نکلے گویا کہ وہ ڈسنے والے سانپ ہیں، جن کے سروں پر لوہے کے خود رکھے ہیں۔ (أصل اصلة کی جمع ہے جو ایک زہریلے سانپ کا نام ہے۔ بصل الفار: جنگلی پیاز، عوام اسے بُصَيْلَة کہتے ہیں۔

بصم: ا۔ بَصَمَ ۔ بَصْمًا القماشَ: کپڑے پر نشان لگانا۔ البُصْم: چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ ثوبٌ ذو بُصْم: موٹا گف کپڑا۔ رجلٌ ذو بُصْم: موٹا آدمی۔

۲۔ البَصما (ط): ایک قسم کی مٹھائی (ترکی لفظ)۔

○ بَصَمَ ۔ بَصما ہ: کو چھاپنا، پر نقش کا ٹھپا چھاپنا، ٹھپا لگانا، مہر لگانا، نشان چھاپنا۔ بَصْمَة جمع بَصَمَات: ٹھپا، مہر، نقش۔ بصمة الختم: شامپ، شامپ کا نقش۔ بصمة الأصابع: انگلیوں کا نشان۔

بصا: بَصَا ۔ بَصْوًا غريمَهُ: قرضدار سے سب کچھ لے لینا۔ البَصْوَة: چنگاری۔

بضّ: ا۔ بَضَّ ۔ بَضَاضَةً و بُضُوضَةً: موٹاپے کے ساتھ پتلی اور نرم کھال والا ہونا صفت: بَضّ و باضّ و بَضِيض مونث بَضَّة و باضَّة و بَضِيضَة۔

۲۔ بَضَّ ۔ بَضًّا و بُضُوضًا و بَضِيضًا العينُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ ما تَبِضُّ عينُهُ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وہ مصیبت پر بہت صابر ہے۔ ۔ الماءُ: پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔ ۔ الحجرُ: پتھر سے پانی کا رسنا، بخیل کے بارے میں کہتے ہیں: فلانٌ ما یبضُّ حجرہ: بخل کے سبب سے فلاں شخص سے بھلائی نہیں مل سکتی۔ ۔ لہ: کو دینا۔ ۔ بَضَضًا و بضاضۃً: تھوڑی چیز یا پانی دینا۔ اَبَضَّ لہ: کو تھوڑی سی چیز دینا۔ تَبَضَّضَ حقَّہٗ من فلان: سے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا حق وصول کرنا۔ ۔ فلانًا: سے سب کچھ لے لینا۔ البَضوض جمع بضاض من الآبار: کم پانی والا کنواں۔ البَضیضَۃ: پوری ملکیت۔ کہا جاتا ہے: اخرجتُ لہ بضیضتی: میں نے اپنی ساری پونجی اس کے پاس نکال کر رکھ دی۔

۳۔ بَضَّ ۔ اوتارَ العُود (مو): سارنگی کے تاروں کو بجانے کے لئے حرکت دینا (چھیڑنا)۔ بَضَّضَ تَبضیضًا: ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا۔ اِبتَضَّ القومَ: قوم کو بالکل تباہ کر دینا۔

○ بَضّ: نرم کھال والا۔

بضع: ۱۔ بَضَعَ ۔ بَضعًا و بَضَّعَ الشیءَ فانبَضَعَ: چیز کو کاٹنا، نشتر سے چیرنا، چیز کا کٹ جانا اور نشتر سے چر جانا۔ الباضِع: کاٹنے والی تلوار۔ المِبضَع جمع مَباضِع: کھال وغیرہ چیرنے کا آلہ، کھال پھاڑنے کا آلہ۔ البِضعَۃ و البَضعَۃ جمع بَضع و بِضَع و بِضاع و بَضَعات: گوشت کا ٹکڑا۔

۲۔ بَضَعَ ۔ بُضوعًا الکلامُ: کلام کا واضح ہونا۔ ــــ الکلامَ: کلام کو سمجھنا۔ اَبضَعَہُ الکلامَ: کلام کو کسی کے لئے واضح کرنا۔

۳۔ اَبضَعَ الشیءَ (ت): چیز کو سرمایہ، سامان تجارت (پونجی) بنانا۔ تَبَضَّعَ: پونجی لینا۔ ۔ الشیءَ: چیز کو پونجی (سامان تجارت) بنانا۔ اِستَبضَعَ: سرمایہ لینا، سامان تجارت (پونجی) لینا۔ ــــ الرجلَ الشیءَ: کے لئے سرمایہ مہیا کرنا۔ الباضِع: سامان اٹھانے والا۔ البِضاعَۃ جمع بضائع: تجارت کے لئے تیار کیا ہوا مال یا سرمایہ، پونجی۔

۴۔ بَضِعَ ۔ بُضوعًا فلانٌ: اکتا جانا، تنگ دل ہونا۔ تَبَضَّعَ العَرَقُ: پسینہ کا بالوں کی جڑوں سے تھوڑا تھوڑا بہنا۔ البِضع و البَضع: رات کا کچھ حصہ، تین سے نو تک کی تعداد۔ کہا جاتا ہے: بِضع سنین: کچھ سال، چند سال، کئی سال۔ بِضع عشرۃَ من النساء: دسیوں عورتیں۔ بِضع و عشرون امراۃً: بیس اور کچھ عورتیں۔ مذکر کے ساتھ: بضعۃ عشر من الرجال اور بضعۃٌ و عشرون رجلاً کہیں گے۔ لفظ بضع کو پہلے لانا ضروری و لازمی ہے۔ عشرون و بضع کہنا درست نہیں۔

○ بَضَعَ ۔ بَضعًا ہ: کو کاٹنا، کاٹ ڈالنا، چاک کرنا، چیرنا، پھاڑنا، عمل تشریح کرنا، اعضاء کو علیحدہ کرنا، عضو کو کاٹ دینا۔ بَضَّعَ: تراشنا، چیرنا، پھاڑنا، چاک کرنا، اعضاء کو علیحدہ کرنا۔ باضَعَ ھا: عورت کے ساتھ ہم بستر ہونا۔ اَبضَعَ ہ: سرمایہ لگانا۔ تَبَضَّعَ: تراشا جانا، چرنا، پھاڑا جانا، چاک ہونا، اعضاء کا علیحدہ کیا جانا، تجارت کرنا، خریداری کرنا۔ اِستَبضَعَ: تجارت کرنا۔ بَضع: قطع عضو، قطع و برید۔ بضعۃ جمع بِضَع: (گوشت کا) ٹکڑا، گوشت۔ بُضع: اندام نہانی۔ بِضاعَۃ جمع بَضائع: سامان، مال تجارت، تجارتی اشیاء، پیش کرنے کی چیز، دکھانے کی چیز، عطا کردہ خوبی، اوصاف، صفات، خوبیاں، کمالات۔ قِطارُ البضاعَۃ: مال گاڑی۔ اخرج ما عندہ من بضاعۃ: اس نے وہ وہ کچھ کہہ دیا جو کہنا چاہتا تھا۔ مِبضَع جمع مَباضِع: چیر پھاڑ والا چاقو، نشتر۔ مُستَبضِع: منیجر، کارپرداز، کارپرداز، گماشتہ، کارندہ۔

بضم: بَضَمَ ۔ بَضمًا الزرعُ: فصل کا موٹے اور سخت دانوں والا ہونا۔ البُضم: خوش نفس۔ کہا جاتا ہے: ہو کریمُ البضم: وہ کریم النفس ہے۔

بط: ۱۔ بَطَّ ۔ بَطًّا الجرحَ: زخم کو چیرنا۔ المِبَطّ جمع مَباطّ و المِبَطَّۃ: نشتر، شگاف لگانے کا آلہ۔

۲۔ بَطَّطَ: عاجز ہونا، تھکنا۔ البَطّ جمع بُطوط و بِطاط: واحد البَطَّۃ (مذکر و مونث دونوں کے لئے) (ح): بطخ۔ البَطَّۃ: بطخ کی شکل کی شیشی۔ تبطیط او تَفَلطُح الارض (ع ف): زمین کے استوائی اور قطبی قطروں کے درمیان فرق، استوائی قطر پر تقسیم کے بعد یعنی ۱/۲۹۷ جب کہ مشتری کا اس قسم کا فرق ۱/۱۵ ہے۔

۳۔ بَطبَطَ یُبَطبِطُ البَطُّ: بط کا بولنا، پانی میں غوطہ لگانا۔ ــــ الرجلُ: کمزور رائے والا ہونا۔ البَطباط (ن): ایک پودا جس کے پھول سفید رنگ کے یا گلابی رنگ کے ہوتے ہیں، عموماً اس کی بیل ٹٹی پر چڑھ جاتی ہے، سدابہار ہوتا ہے یا سال کے بعد پھول لگتے ہیں۔

۴۔ البَطاطا (ن): آلو، اروی، رتالو۔

○ بَطّ واحد بَطّۃ: بطخ، بط، مرغابی۔ بَطّۃ: چرمی بوتل۔ بَطّۃُ الساق: پنڈلی۔

بطؤ: بَطُؤَ ۔ بُطأً و بطاءً و بُطوءًا و اَبطأَ [illegible]

بَطَّأَ علیہ بالامر: کام کو موخر کرنا۔ باطَأَہٗ: سے ٹال مٹول کرنا۔ تَباطأً و تَباطُؤًا فی سیرہ: چلنے میں پیچھے رہنا، دیر لگانا۔ اِستَبطأَہٗ: کو آہستہ پانا یا سمجھنا۔ المَبطأۃ: تاخیر کا باعث و سبب۔

○ بَطُؤَ ۔ بُطأً و بطاءً و بَطاءۃً: آہستہ ہونا، آہستہ رو ہونا، پیچھے رہنا، دیر لگانا، کاہلی کرنا، پس و پیش کرنا، تامل کرنا، انتظار کرنا، ہچکچانا۔ بَطَّأَ علی ب: کو میں روکنا، باز رکھنا، آہستہ کرنا، کو تھامے رہنا، سنبھالے رہنا۔ اَبطأَ ہ: کو آہستہ کرنا، کی رفتار کم کرنا، روکے رکھنا، آہستہ ہونا، آہستہ چلنا یا آہستہ گاڑی چلانا۔ ــــ عن: کسی کام میں تاخیر کرنا، کسی کو لینے میں تاخیر کرنا، کو انتظار میں رکھنا۔ تَباطأَ فی: میں آہستہ ہونا، سست ہونا۔ تَباطأَ: آہستہ ہونا، آرام سے کام کرنا، آہستہ جانا، آہستہ ڈرائیو کرنا، آہستہ کام کرنا یا آہستہ یا آرام سے کوئی کام کرتا رہنا، آہستہ چلنا۔ اِستَبطأَ ہ/ہ: کو آہستہ، سست یا دھیما پانا۔ ــــ ہ: کے لئے طویل انتظار کرنا پڑنا، کا انتظار کرتا رہنا۔ بُطء: آہستگی، سستی۔ بِبُطءٍ: آہستہ، آرام سے، اطمینان سے۔ بَطيء جمع بِطاء: آہستہ، آہستہ رو، آہستہ آہستہ قدم اٹھانے والا، سست، تاخیر کرنے والا، بے ہمت، مٹھا، دیر سے آنے والا، تدریجی، غیر محسوس، نا قابل ادراک۔ بَطيءُ التردُّد: آہستہ فریکوئنسی والا at low frequency۔ اَبطَأ: زیادہ آہستہ۔ اَبطأُ من غرابِ نوحٍ: بہت ہی سست، بہت ہی دیر کرنے والا۔ اِبطاء: آہستہ ہونا، مزاحمت، روک، رکاوٹ، رفتار میں کمی، پیچھے رہنا، توقف کرنا، دیر لگانا، منتظر رہنا، دیر میں آنا، دیر میں پہنچنا، تاخیر، دیر، آہستگی۔ دُونَ ابطاء: بلا تاخیر۔ تَباطُؤ: آہستگی، آہستہ ہونا، روک، رکاوٹ، دھیما ہونا، دیر سے واقع ہونا، مقررہ وقت کے بعد واقع ہونا۔

○ بَطّارِیۃ جمع بطاریات: بیٹری (برقی یا فوجی)۔

○ بطاطا و باطۃ: میٹھا آلو، اروی، رتالو۔

○ بطاطس: آلو (جمع)۔

○ بَطبَطَ بَطبَطۃً: بطخ کا قیں قیں کرنا۔

بطح: ۱۔ بَطَحَ ۔ بَطحًا ہ: کو منہ کے بل گرانا۔ اِنبَطَحَ الرجلُ: منہ کے بل گرنا۔ الباطِح (فا): منہ کے بل گرنے والا، لیٹنے والا۔

۲۔ بَطَحَ ۔ بَطحًا ہ: کو پھیلانا، بچھانا۔ بَطَّحَ البیتَ: گھر میں کنکریاں بچھا کر ہموار کرنا۔ تَبَطَّحَ و اِنبَطَحَ و اِستَبطَحَ الوادی: وادی کا پھیلنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کشادہ ہونا۔ البَطْحَاء جمع بطاح و بَطَائِح و بَطْحَاوَات و الأبْطَح جمع أبَاطِح و البطيحة جمع بَطَائِح و البِطح: کشادہ نالہ جس میں ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں۔ البُطْحَة: مسافت۔

٣- البَطْحَة: قدوقامت۔ البُطْحَة: خصلت، عادت۔ کہا جاتا ہے: هذه بُطْحَة صدق: یہ سچائی کی خصلت یا عادت ہے۔ البُطاح (طب): بخار سے پیدا ہونے والی ایک بیماری۔ البُطَاحِی: برسام سے مشابہ بیماری۔

○ بَطَحَ ۓ بَطْحًا ہ/ہ: کو جھکانا، گرانا، لٹانا، زمین پر پھینکنا، گرانا۔ تَبَطَّحَ و اِنْبَطَحَ: منہ کے بل گرا ہوا یا افتادہ ہونا، گرا ہوا ہونا، لٹایا ہوا ہونا، پاؤں پسار کر بیٹھنا یا لیٹنا، یوں گرنا کہ ٹانگیں پھیل جائیں، پھیل جانا، پھیلا ہوا ہونا، لیٹنا۔ أبْطَح: ہموار، چپٹا، سپاٹ۔ جمع اَبَاطِح: تسلا نما وادی، وادی کی وسیع گزرگاہ۔ بَطْحَاء جمع بِطَاح و بَطحاوَات: تسلا نما وادی، ہموار زمین، میدان، سپاٹ زمین، کھلا علاقہ۔ بَطِيحَة جمع بَطَائِح: چشمہ یا وادی کی چوڑی گزرگاہ، پانی کی بند اکھلی اور چوڑی مقدار۔ مُنْبَطِح: سجدہ ریز، چپٹا، ہموار، ہموار زمین، میدان۔

بطخ: بَطَخَ ۓ بَطْخًا ہ: کو چاٹنا۔ أبْطَخَ: بہت خربوزوں والا ہونا۔ البِطِّيخ (ن): خربوزہ کی بیل، خربوزہ، تربوز۔ البطيخ الاصفر: سرداً، گرما۔ المَبْطَخَة جمع مَبَاطِخ: خربوزوں اور تربوزوں کا کھیت۔

○ بِطِّيخ و بَطِّيخ (واحد بطيخة: خربوزہ، تربوز۔ بَطِيخ: پہیے کا درمیانی حصہ، ہب (hub)، مدار۔

بطر: ا- بَطَرَ ۓ بَطْرًا ہُ: کو چیرنا، شگاف دینا صفت مفعولی: مَبْطُور و بَطِير۔

٢- بَطِرَ ۓ بَطَرًا الحقَّ: تکبر کی وجہ سے حق کے قبول کرنے سے انکار کرنا۔ — الشيءَ: پسندیدہ چیز کو ناپسند کرنا۔

٣- بَطِرَ ۓ بَطَرًا: زیادہ نعمت کی وجہ سے حیران ہونا، اترانا، بہک جانا — النعمةَ: جہل و تکبر سے نعمت کو حقیر جاننا اور اسکا شکر بجا نہ لانا صفت: بَطِر۔ أبْطَرَهُ: کو دہشت میں ڈالنا، ناشکر گذار بنانا۔ کہتے ہیں: أبْطَرَهُ ذرعَه: اس پر اس کی طاقت سے زائد لاد دیا۔

٤- — بِطْرًا: بے کار، رائیگاں۔ کہا جاتا ہے: ذَهَبَ دمُهُ بِطْرًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ البَطَّارِيَة: بیٹری (فوجی)۔ بیٹری (برقی)۔

٥- بَيْطَرَ الدابّةَ: جانور کا علاج کرنا، اس کی نعل بندی کرنا۔ صفت: مُبَيْطِر و بَيْطِر و بَيْطَار جمع بَيَاطِرَة۔ البَيْطَرَة: سالوتری کا پیشہ۔

٦- البِطْرِير: زبان دراز، بہت چیخنے والا۔

٧- البَطْرَشِيل و البَطْرَشين: ایک قسم کا لمبا کپڑا جس کو کاہن ڈیوٹی اور خدمت کے وقت استعمال کرتا ہے۔

٨- البَطْرَك و البَطْرِيَرك و البَطْرِيك جمع بَطَارِكَة و بَطَارِيك: میر اسقف، پادریوں کا سردار، پیشوا، عیسائیوں کے کسی گروہ کا سردار۔

٩- البَطْرِيق جمع بَطَارِق و بطاريق و طارقة رومی فوج کا جرنیل۔ (ح): پنگوئین آسٹریلیا کا ایک پنکھ دار آبی پرندہ جو اڑ نہیں سکتا۔

○ بطر: بَطِرَ ۓ بَطَرًا: وحشی ہونا، شوخ و چنچل ہونا، بے لگام ہونا، اوباش ہونا، لاپرواہ ہونا، عاقبت نااندیش ہونا، بے احتیاط ہونا، مغرور ہونا، خودنما ہونا۔ — ہ: سے غیر مطمئن، ناخوش ہونا، کا لحاظ نہ کرنا، سے بے التفاتی کرنا، کو نظر انداز کرنا۔ أبْطَرَ: غیر محتاط بنانا، عاقبت نااندیش بنانا۔ بَطَر: رندی، بدکاری، آوارگی، بددماغی، تکبر، غرور، ہلکا پن، چھچھورا پن، خود بینی، خودنمائی۔ اَبَاطِرَة: جویائے سرور، لذت طلب کرنے والے، پلے بوائز۔

○ البَطْراء: پیٹرا (Petra) ایک قدیم شہر اودمیوں اور نباطیوں کا) اب جنوبی مغربی اردن میں اس کے کھنڈرات ہیں۔

○ بَطْرَخ جمع بَطَارِخ: مچھلی کے بیضہ دان میں انڈوں کا گچھا۔

○ بُطْرُس: پیٹر Peter۔

○ بَطْرَشِيل و بطرشين: لمبا جامہ یا چغہ (قدیم روم میں) ریشم کا دوپٹہ جو کندھے پر ڈالا جاتا تھا اور گھٹنوں تک لٹکا رہتا تھا۔

○ بِطْرِيق جمع بَطَارِقة و بطارِيق: قدیم روما کا اصلی شہری، خاندانی امیر، نجیب، شریف، قیصر روم کا وائسرائے، رومن جنرل، پنگوئین Penguin۔

بَطْرَك و بَطْرِيك و بَطْرِيَرك جمع بَطَارِكة: خاندان کا سربراہ، سردار قبیلہ، سردار قابل احترام بزرگ، بزرگ، پادری کا لقب۔ بَطْرَكِيَة و بَطْرِيَرْكِيَة: قبیلے کی سرداری۔ اسقف یا پادری کا علاقہ۔

بطش: بَطَشَ ۓ بَطْشًا به: کی یا ایک سخت گرفت کرنا۔ — عليه: پر حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا صفت: بَاطِش و بَطَّاش و بَطِيش: کہا جاتا ہے: فلانٌ بَطُش في العلم بباعٍ بسيط: فلاں شخص علم سیکھنے میں بہت تیز رفتار ہے۔ بَاطَشَهُ: ایک دوسرے کو سختی سے پکڑنا۔

○ بَطَشَ ۓ بَطْشًا: زور سے حملہ کرنا۔ — في/ب: پر ٹوٹ پڑنا، کو پچھاڑنا، زیر کرنا، پر بوجھ ڈالنا۔ — ب: کو پچھاڑ دینا، ضرب سے بے ہوش یا وقتی طور پر ناکارہ کر دینا، کو مارنا، پر ضرب لگانا۔ پر بھد سے گرنا یا پڑنا۔ بَطْش: طاقت، قوت، سختی، زور، تشدد، ہمت، شجاعت، بہادری، دلیری، جبر، تعدی، جور و جفا، ظلم و ستم۔ بَطْشَة: تصادم، ٹکر۔

بطع: الأبْطَع: وہ شخص جس کے سامنے والے نیچے کے دانت گر گئے ہوں۔

بطق: البِطَاقة جمع بَطَائِق: خط، پرچہ۔ — بطاقة الثوب: کپڑے پر لگی ہوئی چٹ جس پر کپڑے کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔

○ بِطَاقة جمع بطاقات، بِطَائق: (کاغذ کی) سلپ، ٹکٹ، کارڈ، پیشہ کا کارڈ۔ بطاقة شخصية و بطاقة التعريف: شناختی کارڈ۔ بطاقةُ المَوَادِ الغِذَائِية و بطاقة التَّمْوِين: راشن کارڈ۔ بطاقة المُعَايَدَه: مبارکبادی کارڈ۔

بطل: ا- بَطَلَ ۓ بَطْلًا و بُطُولًا: خراب ہونا، بے فائدہ ہونا، بیکار ہونا صفت: بَاطِل۔ أبْطَلَ الشيءَ: کو ضائع کرنا، باطل کرنا۔ البُطْل: باطل، رائیگاں۔ کہا جاتا ہے: ذهب دمُهُ بُطْلًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ البُطُلَات: لغویات، فضولیات۔

٢- بَطَلَ ۓ بَطَالَةً الفاعِلُ من العمل: معطل ہونا، بے کار ہونا صفت: بَطَّال۔ بَطَّلَهُ: کو معطل کرنا، بے کار کرنا۔ تَبَطَّلَ: معطل ہونا۔ البَطَالَة: بیکاری، کام سے فراغت۔

٣- بَطَلَ ۓ بُطْلًا و بُطُولًا و بُطْلَانًا: خراب ہونا، رد ہونا، منسوخ ہونا۔

٤- بَطَلَ ۓ بَطَالَةً في كلامِه: تمسخر کرنا۔ أبْطَلَ الرجُلُ: تمسخر کرنا۔

٥- بَطُلَ ۓ بَطَالَةً و بُطُولَةً: بہادر ہونا، دلیر ہونا۔ صفت: بَطَل جمع أبْطَال مونث بَطَلَة جمع بَطَلات۔ تَبَطَّلَ: شجاع بننا۔

٦- أبْطَلَ: باطل کام کرنا، جھوٹ بولنا، صف: مُبْطِل۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تَبَطَّلَ القومُ بينهم: آپس میں لغو و باطل کام کرنا۔ البُطْل: جھوٹ۔ الباطِل (فا) جمع أباطِيل: باطل، ناحق، شیطان، ساحر، جادوگر۔

۱۔ بَطَلَ ـ بُطْلاً و بُطُلاناً: کالعدم، قانوناً بے ضابطہ یا بے اثر، یا کالعدم، جھوٹا، بودا، کمزور، غیر مستحکم، بیکار، ناکام، لاحاصل، فضول، ناکارہ یا بے اثر و بے نتیجہ ہونا یا ہو جانا، منسوخ ہو جانا، رائج نہ رہنا، متروک ہو جانا، رک جانا، جاری نہ رہنا، ختم ہونا، بے حرکت، بے عمل یا سست ہونا، بے کار و بیروزگار ہونا۔ بَطَّلَ ہ: کو ناکام بنانا، بے اثر کرنا، غیر مؤثر کرنا، کا توڑ کرنا، دفعیہ کرنا، کو بے اثر کرنا، کا اثر توڑنا، کو غیر جانبدار بنانا، کو کالعدم قرار دینا، کو یکسر ختم کر دینا، منسوخ کرنا، کو کچل دینا، دبا دینا، کو ختم کرنا، کا خاتمہ کرنا، کو ضبط کرنا، روکنا، نہ بتانا، پوشیدہ رکھنا، کو ممنوع قرار دینا۔ أَبْطَلَ بمعنی بَطَّلَ، أَبْطَلَ: بچوں کی سی باتیں کرنا۔ ـــ ہ: (مخالف کو) بے بس کر دینا، غیر متحرک کرنا، ختم کر دینا۔ بُطْل: انفساخ، معدومیت، کالعدم یا باطل ہونا، ناکارہ ہونا، فضول ہونا، بے اثر ہونا، مایا، سراب، غیر حقیقی شے، بے اصل بات، بطلان، جھوٹ، کھوٹ، ناراستی۔ بطالة و بَطَالَة: سستی، کاہلی، بے کاری، آرام طلبی، بے عملی، فارغ وقت، چھٹیاں، تعطیلات، بیروزگاری۔ بَطَّال جمع بَطَّالُون: سست، کاہل، بے کار، بے عمل، بے حرکت، بے روزگار۔ بُطْلان: انفساخ، معدومیت، ناکارہ ہونا، لاحاصل ہونا، مایا سراب غیر حقیقی شے، جھوٹ، کالعدم ہونا، إبطال: ناکام بنانا، بے اثر کرنا، کالعدم قرار دیا جانا، تباہی، بربادی، تنسیخ۔ باطِل: بیکار، جو نافذ العمل نہ ہو، غیر نافذ، غیر موثر، ناکام، لاحاصل، فضول، ناکارہ، بے اثر، بے نتیجہ، جھوٹ، غلط، لغو، بے سروپا، نامعقول، بعید از قیاس، بے تکا، مضحکہ خیز، بے بنیاد، قانوناً بے ضابطہ، بے اثر، کالعدم، دھوکا، جھوٹ، دروغ، کذب، ناحق۔ بالباطِل و باطلاً: دھوکے سے، فضول، بیکار، لاحاصل۔ أباطيل: مایا، سراب، فضول باتیں، معمولی سی چیزیں، ادنی سی باتیں، بیکار باتوں میں ضیاع وقت، بیکار باتیں، بچوں کی سی باتیں۔ مُبْطِل: بچوں کی سی باتیں کرنے والا، باتونی مقرر، بکی مقرر، بے معنی باتوں میں وقت ضائع کرنے والا جھوٹا۔ مُبْطَل: بے کار، فضول، لاحاصل، بے کار، بے فائدہ، بے اثر، ہیچ، نکما۔ مُتَبَطِّل: بے روزگار۔

۲۔ بَطُلَ ـ بَطَالَة و بُطُولَة: بہادر ہونا، دلیر ہونا، رستم صفت ہونا، غازی ہونا؛ ہیرو ہونا، سورما ہونا، میر افسانہ ہونا۔ بَطَل جمع أبْطَال: بہادر، رستم صفت، غازی، ہیرو، سورما، میر افسانہ، حمایتی، حامی، پشتیبان، میر، چمپیئن، بانی، رہنما، ہیرو، کسی ناٹک کا خاص کردار، ممتاز شخص، سرغنہ، سربرآوردہ، (فلمی) ستارہ۔ بَطَلُ العالَم: ورلڈ چمپئن (کھیلوں میں)۔ بطالة: شجاعت، شجاعانہ کردار۔ بَطَلَة: ہیروئن (کسی قصہ کی)، خاتون چمپئن، خاتون ستارہ (فلمی وغیرہ)۔ بُطُولة: بہادری، شجاعت، شجاعانہ کردار، سربرآوردہ رول، (فلم تھیئٹر میں) بڑا اداکار یا اداکارہ ہونا، (کھیلوں میں) اول آنا، جیت یا بہادری یعنی چیمپئن شپ Championship۔ البطولة العالمية یا بطولة العالم: ورلڈ چمپئن شپ۔ دورُ البُطولة: ہیرو کا کردار، سرکردہ کردار، اداکاری۔

بطم: البُطْم (ن): تارپین کا درخت۔

بطن: ۱۔ بَطَنَ ـ بُطوناً و بَطْناً: پوشیدہ ہونا، صفت: باطِن ـــ ـ بَطْناً الأمرَ: کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ باطَنَ ہُ: سے سرگوشی کرنا، دوستی کرنا۔ بَطَّنَ الثوبَ: کپڑے میں استر لگانا۔ أَبْطَنَ الشيءَ: کو چھپانا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے میں استر لگانا۔ تَبَطَّنَ و إستَبْطَنَ الأمرَ: کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ الباطِنة: بھید۔ بطانة جمع بطائن: بھید۔ ـــ الثوبِ: کپڑے کا استر۔ ـــ الرجلِ: آدمی کے اہل و عیال اور خواص۔

۲۔ بَطِنَ ـ بُطوناً و بَطَانَةً: بڑے پیٹ والا ہونا، توند والا ہونا صفت: بَطِن و بَطِين و مِبْطان ـــ ـ بَطْناً ہُ و لَہُ: کے پیٹ پر مارنا۔ ـــ الوادیَ: وادی میں داخل ہونا۔ بُطِنَ بَطَناً: پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا۔ صفت: مَبْطُون بَطَّنَ و أَبْطَنَ الدابَّةَ: جانور پر تنگ کسنا۔ تَبَطَّنَ و إستَبْطَنَ الشيءَ: کے اندر داخل ہونا۔ اسی سے ہے: تَبَطَّنَ الوادیَ وغیرہ۔ البَطْن جمع بُطُون و أَبْطُن و بُطْنان: پیٹ۔ ہر چیز کا اندر کا حصہ۔ بطنُ الأرض: زمین کا پست و نشیبی حصہ۔ کہا جاتا ہے: ألقت الدجاجةُ ذابطنها: مرغی نے انڈا دیا۔ صاحت عصافیرُ بطنِهِ: اسے بھوک لگی۔ البَطَن: پیٹ کی بیماری۔ البِطَان جمع أَبْطِنَة و بُطُن: تنگ جس سے جانور کا پالان کسا جاتا ہے، ایک کپڑا جو گھوڑے پر اس کو مکھیوں سے بچانے کے لئے ڈالا جاتا ہے۔ کہا جاتا [illegible] خوشحال ہے۔ التقت حلقتا البطان: معاملہ سخت ہو گیا، مصیبت سنگین ہو گئی۔ البِطْنَة: بسیار خوری کی وجہ سے بہت شکم پری۔ البَطِين: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: كيسٌ بطينٌ: بھری ہوئی تھیلی۔ البُطَين: چھوٹا سا پیٹ۔ (ع ا): دل کا جوف یا خلو، جوف قلب۔ المُبَطَّن: پتلے اور چپکے ہوئے پیٹ والا۔

۳۔ تَباطَنَ المكانُ: جگہ کا دور ہونا۔ البَطِين: دور۔ کہا جاتا ہے: شَأْوٌ بطينٌ: مسافت بعیدہ، دور کی مسافت۔

۴۔ المُبَطَّنَة: ایک قسم کی کشتی۔

بَطَنَ ـ بطنا و بُطوناً: چھپا ہوا ہونا، چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ بَطُنَ ـ بَطَانَةً: توندوالا ہونا۔ بَطَّنَ ہ ب: (کپڑے کو) کا استر لگانا، کوئی چیز کوئی اور چیز والی ہونا، کسی چیز کے اندرونی حصہ کو کسی چیز سے ڈھکنا، کو کے ساتھ لگانا، کو سے بھرنا، پر کی تہہ چڑھانا۔ أَبْطَنَ ہ: کو چھپانا، کو دل میں رکھنا۔ تَبَطَّنَ: کپڑے کا دھاریدار ہونا، استر لگا ہونا۔ ـــ ہ: کے آر پار ہو جانا، کی تہہ کو پہنچنا، کی چھان بین کرنا، کی تحقیقات کرنا، میں منہمک یا مستغرق ہونا۔ استبطن ہ: کے آر پار ہو جانا، کی تہہ کو پہنچنا، کی چھان بین کرنا، کی تحقیقات کرنا، میں منہمک ہونا، مستغرق ہونا، کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، کے متعلق گہری معلومات رکھنا، کا گہرا علم ہونا، کو پوری طرح جاننا، کی پوری طرح چھان بین کرنا۔ بَطْن جمع بُطُون و أَبْطُن: پیٹ، بچہ دانی، رحم، اندر، اندرونی حصہ، گہرائی۔ بَطْنُ القدم: تلوا۔ بَطْنُ الكف: ہتھیلی، کف دست۔ رقصُ البَطْن و رقصُ البُطُون: کولہا ناچ، بیلی ڈانس belly dance۔ في بطون: کے اندر، میں۔ وَلَدَتْ بَطْناً واحداً: اس عورت نے صرف ایک بار بچہ جنا۔ بَطْناً لِظَهْرٍ: بالکل الٹا، اوندھا، درہم برہم۔ بَطْنِي: پیٹ کا، شکمی، اندرونی، معدے کا۔ بَطِن: توندوالا۔ بِطْنَة: جوع البقر، بسیار خوری، بدہضمی، سوئے ہضم۔ بِطَان جمع أَبْطِنَة: اونٹ کے زین کا تنگ، زیر بند، پیٹی۔ بِطَانَة جمع بَطَائِن: اندر، اندرونی حصہ، (کپڑے کا) استر، خدم و حشم، نوکر چاکر (جو کسی کے جلو میں ہوں) حاشیہ نشین۔ في بطانة: کے درمیان (میں)، میں کے دوران میں، کے اندر۔ بَطِين جمع بِطَان و مِبْطان: توند والا، موٹا، فربہ، تیم تحیم، جسیم، کھاؤ، پیٹو، پرخور۔ بُطَيْن: دل کا خلو، جوف۔ بَطَّانِيَّة جمع بَطَّانيات و بَطَاطِين: ڈھکنا، سرپوش، کمبل، لحاف، رضائی۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بَاطِن جمع بَوَاطِن: اندرونی، اندر، دلی، باطنی، روحانی، قلبی، داخلی، ذاتی، اصلی، حقیقی، پوشیدہ، پنہاں، مخفی۔ البَاطِنَة: مشرقی عمان کا ساحلی میدان۔ بَاطِناً: دلی طور پر، روحانی طور پر، پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر، باطن الکف: ہتھیلی۔ باطِنُ القدم: پاؤں کا تلوا۔ فی باطِنِ الأمرِ: بنیادی طور پر، بہر حال، بہر صورت، واقعی، درحقیقت۔ بواطِنُ الامر: عناصر، لازمی اجزاء، کی تہہ میں حالات یا وجوہات۔ بَوَاطِنُ الارض: زمین کی پوشیدہ یا پنہاں گہرائیاں۔ بَاطِنی: اندرونی، باطنی، داخلی، اصلی، نفس کا۔ مرضٌ باطنی: اندرونی بیماری۔ الطب الباطنی اندرونی دوا۔ البَاطِنِیَة: اسلام میں ایک مکتبِ فکر کا نام جو وحی شدہ نصوص کے پوشیدہ اور مخفی مفہوم کو وجدان سے جاننے سے متصف ہے۔ مَبْطُون: گیس یا آنتوں کی بیماری میں مبتلا۔ مُبَطَّن: دھاریدار۔ ـ ب: سے بھرا ہوا۔

۲۔ بَطَّنَ ہ: (کپڑے وغیرہ کو) صاف کرنا، کلف دینا۔ بَاطَان: کپڑے صاف کرنے اور انہیں کلف دینے کا کارخانہ۔

بطی: البَاطِیَة جمع بَوَاطٍ: شراب کے لئے شیشہ کا برتن۔

○ باطِیَة: جگ، صراحی، جھجھری، گھڑا۔

بَظَ: بَظَّ ـ بَظًّا العُودَ (مو): سارنگی کے تاروں کو بجانے کے لئے حرکت دینا۔ أَبَظَّ الرجلُ: فربہ ہونا، صفت: بَظِیط۔ البَظّ: (لفظ کا اتباع) کہا جاتا ہے: هو فَظٌّ بَظٌّ: وہ سخت مزاج اور تندخو ہے۔ ○ بَظَّ ـ بَظًّا: دھار بن کر نکلنا، پھوٹ بہنا، زور سے نکلنا، پھوٹ نکلنا۔

بظر جمع بُظُور: بظر، چھولا clitoris۔

بع: ا۔ بَعَّ ـ بَعًّا الماءَ: پانی کو بکثرت بہانا۔ البَعَاع: بادل میں موجود پانی۔ (کہا جاتا ہے: القی السحابُ بَعَاعَهُ: بادل نے سارا پانی برسا دیا)، سامان۔

۲۔ البَعْبَعَة: جلدی جلدی بولتے چلا جانا، بعض الفاظ کی نقل۔

○ بُعْبُع جمع بَعَابِع: بیچا، ہوّا۔

بعث: ا۔ بَعَثَ ـ بَعْثًا و تَبْعَاثًا ہ: کو تنہا بھیجنا۔ ـ بہ: کو دوسرے کے ساتھ بھیجنا۔ اِبْتَعَثَهُ: کو بھیجنا۔ البعث والبَعَث جمع بُعُث و بُعُوث: فوج، ہر وہ جماعت جسے کہیں بھیجا جائے۔ البَعْثة: (بَعْث کی طرح) ہر وہ جماعت جسے کہیں بھیجا جائے جیسے: بعثة عسکریة: فوجی وفد یا بعثة سیاسیة او ثقافیة: سیاسی یا ثقافتی وفد۔ البَعِیث: بھیجا ہوا۔ البَاعُوث جمع بواعیث: عیدالفصح کے دوسرے دن کی نماز، بارش طلبی کی نماز یا دعا (سریانی لفظ)

۲۔ بَعَثَ ـ بَعْثًا و تَبْعَاثًا ہُ: کو برانگیختہ کرنا، اُبھارنا۔ کہا جاتا ہے: بعثه من نومه: اس نے اسے نیند سے جگایا۔ بعثه علی الشیء: اس نے اسے کسی کام کے لئے اکسایا۔ ــــ ـ بَعْثًا: جاگتا رہنا۔ تباعثوا علی الشیء: ایک دوسرے کو اسے کرنے پر اکسانا۔ اِنْبَعَثَ: بھیجا جانا۔ البَعْث و البَعَث جمع بُعُث و بُعُوث: وہ شخص جسے اس کی فکریں یا غم بیدار رکھیں اور سونے نہ دیں۔ البَاعِث و البَاعِثَة جمع بَوَاعِث: سبب، باعث۔

۳۔ بَعَثَ ـ بَعْثًا و تَبْعَاثًا المیتَ: مردے کو اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا۔ اسی سے ہے: یومُ البعث: دوبارہ اٹھانے یا زندہ کیا جانے کا دن، جسے یوم القیامة بھی کہا جاتا ہے۔

۴۔ تَبَعَّثَ الشیءُ: تیزی سے نکلنا، ظاہر ہونا۔ ــــ الشِعرُ منه: سے شعر کی آمد ہونا۔ اِنْبَعَثَ: تیزی سے ظاہر ہونا۔ ـ فی السیر: چلنے میں جلدی کرنا۔

۵۔ بَعْثَرَ بَعْثَرَةً ہ: کو بکھیرنا۔ ـ المتاعَ: سامان کو الٹنا پلٹنا۔ تَبَعْثَرَ: الٹ پلٹ ہونا۔ کہا جاتا ہے: تبعثرت نفسی: میری طبیعت میں بگاڑ ہو کر متلی ہونے لگی۔

○ بَعَثَ ـ بَعْثًا ہ/ ہ/ب إلی: کو کے پاس بھیجنا، ارسال کرنا، کو کے پاس اوپر بھیجنا، کو کے پاس آگے بھیجنا۔ ــــ ہ/ب إلی: کو کے پاس نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجنا۔ ــــ ہ/ب: کو نکالنا، چھوڑنا، ظاہر کرنا۔ ــــ ہ: کو ابھارنا، ظہور میں لانا، جگانا، جوش میں لانا، بھڑکانا، کا باعث بننا، کو شروع کرنا، کا سلسلہ چھیڑنا، کو ہوش میں لانا۔ ـ ہ من الموت: کو زندہ کرنا۔ ــــ علی: پر ابھارنا، پر اکسانا، پر آمادہ کرنا، کی ترغیب دینا، کو برپا کرنا، کا باعث ہونا۔ بَعَثَ إلیه هزَّةَ الخَوفِ: کو بدحواس کرنا۔ بعث روح الحیاة فی: میں زندگی کی روح پھونکنا، کو پھر سے پیدا کرنا۔ اِنْبَعَثَ: بھیجا جانا، نمائندہ یا نائب کے طور پر بھیجا جانا، وجود یا عمل میں لایا جانا، مشتعل کیا جانا، مشتعل ہونا۔ ــــ من الموت: موت سے دوبارہ زندہ ہونا۔ ــــ من: میں لایا جانا یا آنا، کے ذریعے وجود میں آنا، سے نکلنا، سے پیدا ہونا، سے بڑھنا، پختگی یا تکمیل کو پہنچنا۔ (خوشبو) نکلنا۔ اِبْتَعَثَ ہ: کو بھیجنا، ارسال کرنا۔ بَعْث: بھیجنا، اخراج، ترسیل، روانہ کرنا، جماعت نمائندگان، جماعت، مندوبین، وفد، زندہ کرنا۔ بُعُوث: وفد (جمع) وفود۔ حزب البعث: نشاۃ ثانیہ پارٹی، ایک سیاسی پارٹی کا نام جو مضبوط اشتراکی رجحانات کی حامل ہے۔ یومُ البعث: یوم قیامت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ بَعْثة جمع بَعْثات: وفد، مشن، مہم، طلبہ کی ادلا بدلی۔ ادلا بدلی طلبہ کا گروہ، نشاۃ ثانیہ، احیاء، دوسرا جنم، دوسری بار پیدائش، دوسرا روپ، دوسرا ظہور، عروج۔ بعثة عسکریة: فوجی مشن۔ بعثة دبلوماسیة: ڈپلومیٹک مشن۔ بعثة اثریة: آثار قدیمہ سے متعلق مہم۔ رئیس البعثة: مشن کا سربراہ۔

○ باعُوث: عیدالفصح۔ حضرت عیسیٰ کے قبر سے اٹھنے کا دن۔

○ مبعث: بھیجنا، ترسیل، اوپر بھیجنا، آگے بھیجنا، اخراج، جگانا، ہوشیار کرنا، اکسانا، ابھارنا جمع مَبَاعِث: سبب، عامل۔ باعِث جمع بَوَاعِث: محرک، تحریک، ترغیب، وجہ تحریک، سبب حرکت، مقصد، حرکت دینے والی قوت، مہمیز، سبب، وجہ، موقع۔ مبعوث: جسے بھیجا گیا ہو، قاصد، نائب، سفیر، ایلچی، ڈیلیگیٹ، منتخب نمائندہ، مندوب نمائندہ، ڈپٹی (سلطنت عثمانیہ میں)۔ مُنْبَعَث: منبع، سرچشمہ، ماخذ، مصدر، جز، بنیاد، ذریعہ، نقطہ، آغاز۔

○ بَعْثَرَ بَعْثَرَةً ہ: کو بکھیرنا، ادھر ادھر پھیلا دینا، پٹکنا، کو بے ترتیب کر دینا، درہم برہم کرنا، کو ضائع کرنا، برباد کرنا، منتشر کرنا، (دولت) اڑانا، لٹانا۔ تَبَعْثَرَ: بکھرنا، ادھر ادھر پھیل جانا، پٹکا جانا، بے ترتیب ہونا، درہم برہم ہونا، ضائع ہونا، برباد ہونا، منتشر ہونا، اڑایا یا لٹایا جانا، ضائع ہونا۔ مُبَعْثَر: بکھرا ہوا، دور تک پھیلا ہوا۔

بعج: بَعَجَ ـ بَعْجًا البطنَ: پیٹ پھاڑنا، صفت فاعلی: باعِج: صفت مفعولی: مَبْعُوج و بعیج: (بعیج مذکر و مؤنث دونوں کے لئے آتا ہے) جمع بَعْجَی۔ ــــ الأرضَ آباراً: زمین میں بکثرت کنوئیں کھودنا۔ ــــ المطرُ الارضَ و بَعَّجَ فیها: بسبب کثرت و شدت، بارش کا زمین کے پتھروں کو ننگا کر دینا۔ تَبَعَّجَ و اِنْبَعَجَ السحابُ: بادل کا برس کر کھل جانا۔ ــــ السیلُ: سیلاب کا شتابی سے بہنا۔ ــــ علیّ بالکلام: وہ میرے ساتھ فرفر بولا، بکثرت بولا۔ البَاعِجَة جمع بَوَاعِج: وادی کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فراخ حصہ۔

○ بَعَجَ ۔ بَعْجًا ہ: پیٹ پھاڑ کر کھول دینا۔ ۔ ہ: میں جھری بنانا، نالی بنانا، پر نشان ڈالنا، دندانے ڈالنا۔ اِنْبَعَجَ: دندانے دار ہونا، نشان پڑے ہونا، روڑے دار ہونا، ناہموار ہونا، خراشوں والا ہونا، رگڑ کھایا ہوا ہونا، کچلا ہوا ہونا، صورت بگڑا ہونا۔ مُنْبَعَج: دندانے دار، نقان پڑا ہوا۔

بعد: ا۔ بَعُدَ ۔ بُعْداً و بَعِدَ ۔ بَعَداً: ہلاک ہونا، مر جانا۔ صفت: بَاعِد جمع بَعَد و بَعِد (مفرد اور جمع کیلئے) و بَعِید جمع بُعَدَاء و بُعُد و بُعْدان۔ جاہلیت میں مرنے والے کے لئے دعاء تھی: لا تَبْعَدْ: یعنی نہ ہلاک ہو، نہ مر۔

۲۔ بَعُدَ ۔ بُعْداً و بَعِدَ ۔ بَعَداً: دور ہونا۔ أَبْعَدَ: دور ہونا۔ ـــ و بَعَّدَ و بَاعَدَهُ: کو دور کرنا۔ تَبَعَّدَ: دور ہونا۔ تَبَاعَدوا: ایک دوسرے کو دور کرنا۔ تَبَاعَدَ و اِبْتَعَدَ و اِسْتَبْعَدَ عنه: سے دور ہونا۔ اِسْتَبْعَدَ الشیءَ: کو دور پانا یا سمجھنا۔ البُعْد و البَعَد و البُعْدَة: دوری، فاصلہ۔ کہا جاتا ہے: بُعْدًا لَـهُ: بددعاء ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے یا اپنی رحمت سے دور کرے۔ البُعَاد: بعید کی طرح صفت ہے۔ مِبْعَد: رجُلٌ مِبْعَدٌ: دور دراز کا سفر کرنے والا۔ الأَبْعَد جمع اَبَاعِد: دور تر، دور ترین، بہت دور۔

۳۔ بَعْدُ: ظرف زمان بمعنی پیچھے۔ بعد، مضاف ہو کر آتا ہے اس کا مضاف الیہ اگر محذوف ہو تو ضمہ پر مبنی ہوتا ہے یا منصوب مُنَوَّن۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: بَعْدُ و بَعْداً و مِن بعدُ۔ البُعْد و البَعَد و البَعْدَة: رائے، ہوشیاری۔ الأَبْعَد جمع أَباعِد: خائن۔

○ بَعُدَ ۔ بُعْدًا: دور ہونا، دور کا ہونا۔ ۔ عن: سے دور ہونا، سے فاصلہ رکھنا، سے آگے جانا، سے تجاوز کرنا۔ ۔: دور کا ہونا، بعید از قیاس ہونا۔ بَعُدَ بِهِ عن: کو سے دور رکھنا۔ لا یَبْعُدُ أن: یہ بعید از قیاس نہیں کہ۔ بَعَّدَه: کو ہٹانا، دور کرنا، کو جلا وطن کرنا، کو دیس نکالا دینا، شہر بدر کرنا۔ بَاعَدَ بین: کے درمیان علیحدگی کا باعث ہونا۔ باعَدَ بین فلان و بین الشیء: کو کوئی چیز حاصل کرنے سے روکنا۔ بَاعَدَ بین اَجْفَانِه: ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ اَبْعَدَ ہ: کو دور کرنا، ہٹانا، لیجانا، خارج کرنا، نکال دینا، موقوف کرنا، منسوخ کرنا، سے پیچھا چھڑانا۔ ـــ ہ: کو برخاست کرنا، جلا وطن کرنا، شہر بدر کرنا، دیس نکالا دینا۔ ـــ ہ: کو بعید از قیاس یا ناممکن بنانا، خارج کرنا، نکال دینا۔ ۔ فی: میں یا کے ساتھ بہت دور جانا۔ ـــ: بہت دور چلا جانا۔ تَبَاعَدَ: ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا، واقع ہونا، کچھ فاصلہ پر ہونا، الگ ہونا، علیحدگی اختیار کرنا، بیگانہ ہونا، کھچے کھچے رہنا۔ ۔ عن: سے دور چلا جانا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، تجاوز کرنا، انحراف کرنا، سے دور رہنا، سے فاصلہ رکھنا، کو چھوڑ دینا، سے بچنا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا۔ ـــ: باقاعدہ وقفوں میں ہونا یا آنا۔ اِبْتَعَدَ: دور چلا جانا، دور ہونا۔ ۔ عن: سے دور رہنا، سے پیچھے ہٹنا، کو چھوڑ دینا، سے بچنا، کنی کترانا، احتراز، یا گریز کرنا، کو نظر انداز کرنا، کی پروا نہ کرنا، کا لحاظ نہ کرنا۔ اِسْتَبْعَدَ ہ: کو چن لینا، بچا کر رکھنا، کو دور سمجھنا، بعید از قیاس سمجھنا، کو بعید از قیاس خیال کرنا۔ ۔ ہ: کو نااہل قرار دینا۔ بُعْد: دوری، جمع اَبْعاد: فاصلہ، طول، عرض اور گہرائی یا موٹائی میں ایک بعد، وقفہ، علی بُعد اور علی البُعد: فاصلہ پر، دور۔ علی بُعدِ مئة مِتر: سو میٹر کے فاصلہ پر۔ عن بعد اور من بعد: ایک فاصلہ سے، سے دور۔ ذو ثلاثة ابعاد: سہ بعدی (جس میں لمبائی، چوڑائی کے علاوہ موٹائی بھی نظر آئے three dimensional۔ قیاسُ الأَبعاد: سادہ پیمائش (linear measure)۔ بُعْدُ الهِمَّة: بلند تمنائیں، مقصد کی بلندی۔ بُعدُ الشِقَّة: وسیع وقفہ، وسیع خلا۔ بُعدُ الصِیْت: شہرت، ناموری۔ بُعدُ الصوت: شہرت، ناموری۔ بُعدُ النظر: دور بینی، دور اندیشی۔ بَعْدُ: تب، پھر، اس کے بعد، بعد میں، بعد میں پھر، بعد ازاں، ابھی تک۔ فیما بعد: بعد ازاں، بعد میں۔ اما بعدُ: اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے۔ هو بعدُ صغیرٌ: وہ محض یا صرف ایک چھوٹا لڑکا ہے، وہ ابھی تک چھوٹا ہے۔ لم یاتِ بعدُ: وہ ابھی تک نہیں آیا۔ بَعْدَ: (کے) بعد، کے علاوہ۔ بعدَ کَوْنِه: اس حقیقت سے قطع نظر کہ وہ ...... ہے۔ بعدَ ذلك: بعد ازاں، اس کے بعد، بعد میں، مزید برآں۔ بعدَ ذاك: علاوہ ازیں، مزید برآں۔ بعدَ أنْ: کے بعد۔ بعدَ إذ و بَعْدَ ما اور مِن بعدِما: (کے) بعد۔ سَفَهٌ مابَعْدَهُ سَفَهٌ: حماقت یا کند ذہنی کی انتہاء۔ بَعْدَئِذٍ: تب، اس کے بعد، بعد ازاں، پھر، اس کے بعد۔ بَعِید جمع بُعَدَاء و بُعُد و بُعْدان و بِعاد عن: سے دور۔ ـــ: دور، دور افتادہ، پرے کا، اپنے دائرہ اختیار سے باہر جاکر، دور رس، دور تک پھیلا ہوا، مکمل، جامع، دور مار، کارِ بعید از فہم، دور از قیاس، غیر معمولی، انوکھا، نرالا، عجیب، ناواقف، عجیب سا۔ ـــ عن: سے متضاد کا عکس، کا الٹ۔ سے بے میل یا بے جوڑ۔ من بعید: دور سے، فاصلہ سے۔ منذُ عهدٍ بعید: بہت عرصہ پہلے۔ بعیدُ الأثر: دور رس نتائج کا حامل۔ بعید التاریخ: قدیم، دور زمانہ میں، تاریخ میں روا پس جاتے ہوئے۔ بعید الشاو: عالی منش، عالی ظرف، نڈر، بے خوف، منچلا دلیر، جوانمرد۔ بعیدُ الشِقَّة: دور، بعید۔ الغَوْر: گہرا، بے پایاں، اتھاہ۔ بعیدُ المَدَی: طویل المسافت، دور مار، دور تک پھیلا ہوا، بہت بڑا، دور رس۔ بعیدُ النظر: دور بین، دور اندیش۔ بعیدُ المَنَال: بمشکل ممکن الحصول، جس تک پہنچنا دشوار ہو۔ ذَهَبَ بعیداً: بہت دور جانا، دور افتادہ ممالک میں جانا۔ تَطَلَّعَ إلی بعید: دور نظر کرنا۔ بُعَیْدَ: کے تھوڑی دیر بعد، کے جلد بعد۔ ابْعَد جمع اباعِد: زیادہ دور، زیادہ فاصلہ پر، زیادہ وسیع، کم ممکن، زیادہ بعید از قیاس جمع اَبَاعِد: بہت دور کے رشتے دار۔ الشرق الأبعد: مشرق بعید۔ الأَبْعَد: غیر حاضر، غیر موجود (مہذب پیچیدہ کلام میں ایسے شخص کے لئے مستعمل ہے جس پر تنقید کی جارہی ہو یا جس پر کوئی الزام لگایا جا رہا ہو۔ نیز متکلم اور مخاطب کا ذکر کرتے ہوئے بھی استعمال کیا جاتا ہے)۔ أَبْعَادِیَة جمع أَبْعَادیات: دیہی جاگیر، تعلقہ یا زمینداری۔ تَبْعِید: جلاوطنی، دیس نکالا۔ بِعَاد: فاصلہ، دوری۔ مُبَاعَدَة: نااتفاقی کا بیج بونا، باہمی کشیدگی، باہمی رنجش۔ اِبْعاد: نکالنا، ہٹانا، جدائی، علیحدگی، اخراج، جلاوطنی، دیس نکالا، ترکِ وطن۔ تَبَاعُد: باہمی دوری، باہمی کشیدگی، باہمی رنجش۔ مُبْعَد: جلاوطن کیا ہوا۔ مُتَبَاعِد: الگ، جدا، علیحدہ، منفصل۔ فی فَتَراتٍ مُتَبَاعِدَة: طویل وقفوں پر یا میں۔ فی فترات متباعدة من الزَمَن: شاذ یا کبھی کبھار کے وقفوں پر، وقتاً فوقتاً۔ مُسْتَبْعَد: بعید از قیاس۔

بعر: ا۔ بَعِرَ ۔ بَعَراً الجملُ: اونٹ کا نو یا چار سال کا ہونا۔ البَعِیر جمع بُعْران و ابْعِرة و جمع الجمع أَباعِر و أباعیر: نو سالہ یا چار سالہ اونٹ یا اونٹنی۔

۲۔ بَعَّرَ و أَبْعَرَ و تَبَعَّرَ المِعَی: انتڑی میں سے مینگنی نکالنا۔ البَعْر و البَعَر جمع أبعار واحد بَعْرَة جمع بَعَرات: مینگنی۔ المَبْعَر و المِبْعَر: مینگنی نکلنے کی جگہ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
marfat.com
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بعز: بَعْزَقَ بَعْزَقَةً ہٗ: کو پراگندہ کرنا، بکھیرنا۔

○ مُبَعْزِق: فضول خرچ، مسرف، مال اڑا دینے والا، بے دردی سے خرچ کرنے والا۔

بعض: ۱۔ بُعِضَ الرجلُ: مچھروں سے ستایا جانا۔ أَبْعَضَ المکانُ: جگہ کا بہت مچھروں والا ہونا، جگہ میں مچھروں کی بہتات و کثرت ہونا۔ صفت: بَعِض و مَبْعُوض۔ البَعُوض (ح): مچھر۔

۲۔ بَعَّضَ ہٗ: کو جزء جزء کرنا، کے حصے بنانا۔ تَبَعَّضَ: جزء جزء ہونا، حصوں میں منقسم ہونا۔ بعضُ الشیء جمع ابعاضُ الشیء: چیز کا ایک جزء یا حصہ، کبھی ایک فرد کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے: بعض اللیالی: یعنی ایک رات (لیلۃٌ من اللیالی)۔

○ بَعَّضَ ہٗ: کو ٹکڑوں یا حصوں میں تقسیم کرنا۔ تَبَعَّضَ: تقسیم ہونا، قابل تقسیم ہونا۔ بعض: ٹکڑا، حصہ، ایک، کچھ، چند، تھوڑا سا، کا کچھ۔ بعضُ العلماء: علماء میں سے ایک یا کچھ علماء۔ رفعنا بعضَھم فوقَ بعضٍ: ہم نے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر سرفراز کیا۔ البعض...... البَعضُ الأخر: کچھ ...... کچھ، چند...... دوسرے۔ بعضُھم بعضاً: ایک دوسرے، ہر ایک، باہمی طور پر، مشترکہ طور پر، دونوں طرف سے، آپس میں مل کر، باہمی طور پر۔ بعضہ فی بعض: ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کے اندر۔ بعضَ الشیءِ: کسی حد تک، کسی قدر، تھوڑا سا، ذرا سا۔ ماثلَہٗ بعضَ المماثلۃ: وہ اس سے کسی قدر یا کسی حد تک مشابہ تھا۔ منذ قرنٍ و بعضِ قرنٍ: کچھ اوپر سو سال سے۔ بَعُوض: (اسم جنس واحد بَعُوضۃ) مچھر، کنکی، مگی۔ تَبْعِیض: تقسیم، حصہ، حصے کرنا، حصوں میں تقسیم کرنا، کسی حصہ میں رکھنا۔

بعط: ۱۔ بَعَطَ ـ بَعْطًا الحیوانَ: جانور کو ذبح کرنا۔

۲۔ بَعَطَ ـ بَعْطًا فی الجھل و الشؤم: جہالت اور بدشگونی میں مبالغہ کرنا، زیادتی کرنا۔ أَبْعَطَ فی الجھل: جہالت میں افراط کرنا۔ ــــ فلانٌ: اپنے قدر سے بڑھ جانا۔ ــــ الرجلَ: کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا۔

بعق: ۱۔ بَعَقَ ـ بَعْقًا الجملَ: اونٹ کو ذبح کرنا۔

۲۔ بَعَقَ ـ بَعْقًا البئرَ: کنواں کھودنا۔ ــــ بُعاقًا المطرُ الارضَ: موسلا دھار برسنا، بارش کا زمین کو شق کر دینا، تڑخا دینا۔ بَعَّقَ الزقَّ: مشک پھاڑ دینا۔ تَبَعَّقَ و اِنْبَعَقَ و اِبْتَعَقَ السحابُ: بادل کا زور سے برسنا۔ ــــ فی الکلام: کلام شروع کرنا۔ البُعاق: تیز برسنے والا بادل۔

۳۔ البُعاق: چیخ، آواز کی سختی۔ مَبْعَقُ المفازۃ: بیابان کی فراخ و کشادہ جگہ۔

بعک: بَعِکَ ـ بَعَکًا الجسمُ: جسم کا سخت اور کھردرا ہونا۔ بُعْکُوکَۃُ الناس: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ ــ الشرِّ: فساد کا مرکز۔ ــ الصیف: موسم گرما کی گرمی۔

○ بُعْکُوکَۃ: کلب club، انجمن، بزم۔

بعل: ۱۔ بَعَلَ ـ بَعَالَۃً و بُعُولَۃً الرجلُ للمرأۃ: مرد کا عورت کا شوہر ہونا۔ ــــ تِ المرأۃُ: عورت کا شوہر والی ہونا۔ باعَلَ القومُ قوماً: ایک قوم کا دوسری قوم میں شادی بیاہ کرنا، رشتہ ناطہ کرنا۔ تَبَعَّلَتِ المرأۃ: عورت کا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ استبعَلَ الرجلُ للمرأۃ: مرد کا عورت کا شوہر ہونا۔ البَعْل جمع بُعُول و بِعَالٌ و بُعُولَۃ: شوہر۔ (بیوی کو بعل بھی کہتے ہیں اور بعلۃ بھی)۔ مالک، سردار۔ کہتے ہیں: من بعلُ ھذہ الناقۃ؟ اس اونٹنی کا مالک کون ہے؟ اس معنی کے پیش نظر کنعانی اور دیگر بت پرست اپنے سب سے بڑے معبود کو بعل کہا کرتے تھے۔

۲۔ بَعَلَ ہٗ ـ بُعُولَۃً علی الرجل: کو سے روکنا۔ کا سے انکار کرنا۔

۳۔ بَعِلَ ـ بَعَلاً بامرہ: اپنے معاملہ میں حیران و ششدر ہونا اور نہ جاننا کہ کیا کرے۔ صفت: بَعِل مونث بَعِلَۃ۔

۴۔ اِسْتَبْعَلَ المکانُ: کسی جگہ کا بارانی ہونا۔ البَعْل من الأرض: بارانی زمین۔

۵۔ بَعْلَبَکّ: ایک شہر کا نام۔ نسبت کے لئے بَعْلَبَکِّی اور بَعْلِیّ کہا جاتا ہے۔

○ بَعْل: بعل نامی معبود۔ بارانی زمین یا پودے (بارش سے جن کی آبیاری ہوتی ہے)۔ ــــ جمع بُعُول و بُعُولَۃ: مالک، شوہر۔ بَعْلَۃ: بیوی۔ بَعْلِیّ: بارانی (زمین) بارش کے پانی سے آبیاری کیے جانے والے پودوں، درختوں کا یا کے متعلق۔

○ بعلبک: مشرقی لبنان کا ایک شہر جسے ازمنہ گذشتہ میں Heliopolis کہا جاتا تھا۔

بعا: بَعَا یَبْعَی و یَبْعُو بَعْوًا و بَعِیَ یَبْعَی بَعْیًا: جرم و خطا کا مرتکب ہونا۔ ــ علیھم الشرَّ: لوگوں پر فساد و برائی برپا کرنا۔ ــ ہ بالعین: پر نظر بد لگانا۔ ــ الشیءَ: کو مستعار لینا۔

بغّ: ۱۔ بَغَّ ـ بَغًّا الدمُ: خون کا جوش میں آنا۔

۲۔ بَغْبَغَ بَغْبَغَۃً البساطَ: فرش روندنا۔ المُبَغْبِغ: جلد باز، غیر واضح کلام کرنے والا۔

بغت: بَغَتَ ـ بَغْتًا و باغَتَ ہٗ: کے پاس اچانک آنا، ناگاہ آنا۔ بَغْتَۃً، علی بَغْتَۃٍ: اچانک۔ کہا جاتا ہے: لستُ آمَنُ من بَغَتاتِ العدو: میں دشمن کے آجانے سے بے خوف نہیں ہوں۔

○ بَغَتَ ـ بَغْتًا و بَغْتَۃً ہ: کے پاس غیر متوقع طور پر آنا، پر بے خبری میں نازل ہونا۔ باغَتَ بمعنی بَغَتَ۔ نیز باغَتَ ہٗ: کو حیران کر دینا، بھونچکا کر دینا۔ اِنْبَغَی: بھونچکا ہونا، ششدر ہونا، ہکا بکا ہو جانا، متحیر ہونا، دہشت زدہ ہونا، خوف زدہ ہونا، دم بخود ہونا۔ بغتۃ: خلاف توقع بات، اچنبھا، حیرت انگیز واقعہ۔ بَغْتَۃً و علی بغتۃٍ: اچانک، یکا یک، حیرت انگیز طور پر، ایکا ایکی، دفعتہ۔ مُباغتۃ: اچانک آمد، حیرت انگیز واقعہ، خلاف توقع بات، اچانک حملہ، چڑھائی۔

بغث: ۱۔ بَغِثَ ـ بَغَثًا: سبزی مائل سفید ہونا، غبار آلود ہونا صفت: أَبْغَث مونث بَغْثاء۔ البُغاث جمع بِغْثان ("ب" کی تثلیث سے) (ح): سبزی مائل سفید رنگ کا ایک پرندہ جو گدھ سے قدرے چھوٹا اور اڑان میں سست ہوتا ہے۔ عرب کے اس قول کہ ان البُغاث بارضنا یستنسر کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہ کر ذلیل و خوار بھی باعزت و باشرف ہو جاتا ہے۔ الأَبغَث جمع بُغْث و أباغِث (ح): ایک آبی پرندہ۔ البُغْثَۃ: سبزی مائل سفیدی۔ البغثاء من الناس: لوگوں کا مخلوط گروہ۔ کہا جاتا ہے: دخلنا فی البغثاء: ہم عام لوگوں کی جماعت میں داخل ہوئے۔

۲۔ بَغْثَرَ القومُ: لوگوں کا جوش میں آنا اور مخلوط ہونا۔ بَغْثَرَ ہٗ: کو جدا جدا کرنا، متفرق کرنا۔ ــــ ت نفسُہٗ و تبغثرت: جی کا مالش کرنا، متلی ہونا۔ البَغْثَر: احمق۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بغد: تَبَغْدَدَ: بغداد کی طرف منسوب ہونا، اہل بغداد سے مشابہت رکھنا۔
○ تَبَغْدَدَ: اینٹھ کر چلنا، اپنا بوجھ ادھر ادھر گرانا، تروتازہ ہونا (بغدادی شخص کی طرح رویہ اختیار کرنا یا پیش آنا۔
بغداد: عراق کا دارالحکومت۔ بَغْدادِی جمع بغدادیون و بَغاوِدَة: بغداد کا باشندہ۔شہری۔
بغر: ا۔ بَغَرَ ـ بُغُوراً النجمُ: ستارہ کا گرنا۔ ـ ت السماءُ: آسمان سے بارش برسنا۔ بُغِرتِ الارضُ: زمین پر بارش برسنا۔ البَغَر و البَغْر: بارش کی زور کی بوچھاڑ۔کہا جاتا ہے: تَفَرَّقُوا شَغَرَ بَغَرَ: وہ چاروں طرف بکھر گئے۔ البُغْرة: پانی کی طاقت۔
۲۔ بَغِرَ ـ بُغْرًا و بَغَراً: پانی پینا اور سیراب نہ ہونا یعنی پانی پی کر سیراب نہ ہونا۔صفت بَغِر و بَغِیر جمع بَغَارَی و بُغارَی۔ البَغَر: پیاس جو نہ بجھے، نہ بجھنے والی پیاس۔
بغز: ا۔ بَغَزَ ـ بَغْزًا ہ: کو لاٹھی سے مارنا۔ البَغْز: سرعت حرکت، چستی۔ البَاغِز: چست، اوباش، بدکار۔ الباغِزِیَّة: ریشم جیسا ایک قسم کا کپڑا۔
۲۔ البُوغَاز جمع بَوَاغِیز: آبنائے (ترکی لفظ)۔
بغش: بَغَشَ ـ بَغْشًا الصبی اِلی امه: بچہ کا رو کر ماں کے پاس جانا۔ ـ ت السماءُ: آسمان کا ہلکی بارش برسانا۔ بُغِشَتِ الارضُ: زمین پر ہلکی بارش ہونا، پھوار پڑنا۔ البَغْشَة: ہلکی بارش، پھوار۔
○ بَغْشَتِ السماءُ: ہلکے چھینٹے پڑنا، ہلکی بوچھاڑ پڑنا۔ بَغْشَة: ہلکی بوچھاڑ، ہلکے چھینٹے (بارش کے)۔ بُغْشَة بمعنی بغشة۔ بُغاشَة: میدے، انڈوں اور مکھن کی پیسٹری۔
بغض: بَغَضَ و بَغُضَ ـ و بَغِضَ ـ بَغَاضَةً: دشمن جانا جانا، نفرت کیا جانا، جب آپ کہیں: ما أَبْغَضَهُ الیَّ: تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے نزدیک بہت ہی قابل نفرت ہے۔ بَغَّضَهُ الیه: کو کسی سے نفرت دلانا۔ أَبْغَضَهُ: سے دشمنی کرنا، نفرت کرنا۔ آپ کے ما أَبْغَضَنِی له کہنے کا مطلب ہے: کہ آپ کسی کی نظر میں کس قدر مبغوض ہیں۔ تَبَغَّضَ الیه: سے دشمنی کرنا، نفرت کرنا۔ تَبَاغَضُوا: ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا۔ البُغْض: دشمنی، نفرت۔ البَغِیض: سخت دشمنی رکھنے والا۔ البِغْضَة: دشمنی رکھنے والے لوگ۔ ـــ و البَغْضَاء و البَغَاضَة: سخت دشمنی۔
○ بَغِضَ ـ و بَغُضَ ـ بُغْضًا و بَغَاضَةً: ناپسندیدہ ہونا، نفرت کیا جانا، قابل نفرت ہونا، نفرت انگیز ہونا۔ بَغَّضَ ہ لِ: کو کے لئے قابل نفرت بنانا۔ بَاغَضَ ہ: سے نفرت کرنا، سخت نفرت کرنا۔ أَبْغَضَ ہ: سے نفرت کرنا، سخت نفرت کرنا۔ تَبَاغَضَ: ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ بُغْض و بِغْضَة و بَغْضَاء: نفرت۔ بَغِیض إلی: کے نزدیک نفرت انگیز، قابل نفرت۔ بغیض: قابل نفرت، نفرت انگیز، کریہ۔ تَبَاغُض: باہمی نفرت۔ مَبْغُوض: نفرت کیا گیا، قابل نفرت، نفرت انگیز۔ مُبْغِض جمع مُبغِضُون: نفرت کرنے والا۔ مُبْغَض: نفرت انگیز، قابل نفرت۔
بغل: بَغَلَهُمْ ـ بَغْلاً: اولاد کو باپ کی طرف سے بدنسل یا بدقوم بتانا، دوغلا ٹھہرانا۔
بَغَّلَ: بمعنی بَغَلَ۔ ـ فی المشی: چلنے میں تھک جانا، عاجز ہونا۔ البَغْل جمع بِغَال و أَبْغَال مونث بَغْلَة جمع بَغَلات و بِغَال (ح): خچر۔ البَغَّال: خچر والا، خچر ہانکنے والا۔
○ بِغَالُ القَنْطَرَةِ: پل کے ستون۔
بغم: ا۔ بَغَمَ ـ، بُغُومًا و بُغَامًا و تَبَغَّمَتِ الظبیةُ: ہرن کا بہت دھیمی آواز سے بولنا، صفت: بَاغِمَة و مَبْغُوم۔ باغَمَهُ: کے ساتھ نرم آواز سے باتیں کرنا۔ البُغَام: ہرن کی آواز۔
۲۔ بَغَمَ ـ بُغَامًاتِ الناقةُ: اونٹنی کا اپنی آواز منقطع کرنا۔ ـــ الرجلُ صاحبَه: اپنے ساتھی سے غیر واضح بات کرنا۔
۳۔ البُغْمَة جمع بُغَم: عورتوں کا ہار (ترکی لفظ)۔
بغو: ا۔ بَغَا ـ بَغْوًا علیه: پر ظلم و زیادتی کرنا۔صفت: بَغُو۔ ـ الشیءَ: کو غور سے دیکھنا۔ البَغْوَة (ز): کچا پھل۔ ـ من النبات: شگوفہ جو سفید نکلا ہو۔
۲۔ بَغُونِیا (ن): رنگدار پھولوں والا ایک پودا جو گرم علاقوں میں آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔
بغی: ا۔ بَغَی یَبْغِی بُغَاءً و بَغْیًا و بُغًی و بُغْیَةً و بِغْیَةً الشیءَ: کو طلب کرنا، کا طالب ہونا، کو چاہنا۔ أَبْغَاهُ الشیءَ: کو چیز کا طالب بنانا، کو کی طلب میں مدد دینا۔کہا جاتا ہے: أَبْغِنِی ضالَّتِی: میری گمشدہ چیز کی تلاش میں میری مدد کرو۔ إنْبَغَی: سہل اور آسان ہونا۔کہا جاتا ہے: لاینبغی لك أن تفعل ذلك: تمہارے لئے ایسا کرنا لائق و مناسب نہیں (اس فعل کا ماضی تقریباً غیر مستعمل ہے)۔ اِبْتَغَی و تَبَغَّی الشیءَ: کو طلب کرنا، کا طالب ہونا۔ اِسْتَبْغَی الشیءَ: کو طلب کرنا، کا طالب ہونا۔ ـ القومَ فبغوه او بغَوا له: لوگوں سے طلب کرنے میں مدد چاہنا، اور لوگوں کا اس کی مدد کرنا۔ البُغْیَة و البِغْیَة و البَغِیَّة و البُغاء: مرغوب و مطلوب شے۔ المَبْغَی و المَبْغَاة: طلب کی نوعیت، طلب کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: بَغَیتُ المالَ من مَبْغَاتِهِ: میں نے مال کو مناسب ڈھب اور جگہ سے تلاش کیا۔جیسے کہتے ہیں: اتیتُ الامر مِن مَأتَاتِهِ: میں نے کام کو مناسب طریقہ سے کیا۔
۲۔ بَغَی ـ الرجلُ: حق سے ہٹ جانا۔ ـ علیه: پر دست درازی کرنا، ظلم و تعدی کرنا صفت: باغٍ جمع بُغَاة و بُغْیان۔ تباغی القومُ: بعض کا بعض پر ظلم و تعدی کرنا۔ البَغْی: ظلم، قصور، نافرمانی۔ضرب المثل ہے: البَغْیُ مَرتعُهُ وَخِیم: ظلم کی پرورش گاہ مہلک ہے۔
۳۔ بَغَی ـ: نافرمانی کرنا۔ ـــ ت الأمَةُ: لونڈی کا زنا کرنا۔ باغت بغاءً و مُباغاةً الامةُ: زنا کرنا۔ البَغِیّ جمع بَغَایا: زانی اور فاجر عورت، زنا کار اور فاحشہ عورت۔
۴۔ بَغَی ـ تِ السماءُ: آسمان کا سخت بارش برسانا۔ البَغْی: بہت بارش۔
۵۔ بَغَی ـ الجرحُ: زخم کا سوج جانا، خراب ہونا، پیپ سے بھر جانا۔ البَغْی: خرابی۔کہا جاتا ہے: بَرِئَ جُرحُهُ علی بَغْیٍ: زخم تو مندمل ہو گیا مگر اندر خرابی موجود ہے۔
۶۔ بَغَایا۔ مفرد بَغِیَّة۔ بغایا الجیش (ا ع): فوج کے ہراول دستے۔
○ بَغَی ـ بُغَاءً ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، مانگنا، چاہنا، کے لئے خواہش یا تمنا ہونا، کی خواہش کرنا، کو حاصل کرنا چاہنا، کی آرزو کرنا، کی تمنا رکھنا۔ ـــ بَغْیًا علی: پر ظلم کرنا، سے غیر منصفانہ برتاؤ کرنا، کو کچلنا، کی شرمناک بے حرمتی کرنا۔ ـــ: زنا کرنا، زنا کاری کرنا، غیر منکوحہ عورت سے زنا کرنا، ناجائز طور پر جنسی تعلقات رکھنا۔ یَنْبَغِی: یہ ضروری ہے، خاطرخواہ، پسندیدہ یا مرغوب ہے، یہ مناسب ہے، موزوں ہے، برمحل ہے، ٹھیک، واجب، معقول، درست یا صحیح ہے، زیبا ہے، یہ ہونا چاہیئے۔ ینبغی لَهُ: یہ اس پر واجب، لازم یا فرض ہے، یہ اسکے لئے مناسب ہے۔ ینبغی علیه: اس کو کرنا پڑے گا، اس کو کرنا ہوگا، اس کو چاہیئے۔ اِبْتَغَی ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، چاہنا، ڈھونڈنا، کی خواہش کرنا، کی آرزو کرنا، کی تمنا کرنا، کے لئے محنت کرنا، جانفشانی کرنا، کا متمنی ہونا، کے لئے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جدو جہد کرنا۔ بَـغْـي: ظلم،حقوق پر چھاپہ مارنا، (کی) خلاف ورزی، ناانصافی، سخت توہین، انتہائی ظلم۔ بَغِي جمع بَغَايا: طوائف،رنڈی،کسبی۔
بُـغْـيَة: جس کی آرزو کی جائے،خواہش،آرزو،تمنا۔
بُـغْـيَةَ: کے مقصد سے،کی غرض سے۔ بِـغَـاء: عصمت فروشی، بدکاری، رنڈی پن۔ بُـغَـاء: خواہش،خواہش کرنا،آرزو،تمنا،کوشش۔ مَـبْـغَـي جمع مَبَاغٍ: چکلا، رنڈی کا مکان،طوائف کا گھر۔
مَبَـاغٍ: خواہشات،آرزوئیں،تمنائیں،مطلوبہ چیز یا بات،جس چیز یا بات کی کمی ہو،مفقود چیز یا بات،جس چیز کی طمع ہو۔ اِبـتِـغَـاء: خواہش،آرزو،تمنا۔
ابتغاءَ: کی غرض سے۔ باغٍ جمع بُغَاة: خواہش مند، طامع، جدو جہد کرنے والا، ظلم وستم کرنے والا، توہین کرنے والا، خلاف ورزیاں کرنے والا، بے انصاف، ظالم، جابر فرمانروا، غاصب حکمران۔
مُبْـتَـغَـي: وہ مقصد جس کی آرزو یا تمنا ہو،(عروج حاصل کرنے کی) تمنا،خواہش آرزو،کوشش،جدو جہد، سعی،دوڑ دھوپ۔
○ بَفْتَة: چھینٹ،سفید سوتی کپڑا۔
○ بِفْتِيك: بڑے گوشت کا قتلہ beefsteak۔
بق: ۱۔ بَقَّ ـ بَقًّا و بُقُوقًا النبتُ: نباتات کا اگنا، پھوٹنا۔ ـــ الماءَ من فيه: پانی منہ سے بزور پھینکنا۔
۲۔ بَقَّ ـ بَقًّا الجرابَ: بوری پھاڑنا،چیرنا۔
۳۔ بَقَّ ـ بَقًّا لـنا العطاءَ: بخشش کو (ہمارے لئے) وسیع کرنا۔ ـــ مالَه: مال بکھیرنا۔ ـــ بَقًّا و بُقُوقًا و اَبَـقَّ تِ السـمـاءُ: آسمان کا لگاتار بارش برسانا، موسلادھار بارش برسانا۔ ـــ تِ المراۃُ: عورت کا کثیر الاولاد ہونا۔ ـــ علی القوم: سے بہت بک بک کرنا،بہت بکواس کرنا۔ بَـقَّـقَ مـالَـه: مال کو بکھیرنا۔ اَبَـقَّ ولـد فـلان: بہت اولاد والا ہونا۔
البَقَاق و البَقَاقَة من الرجال: بہت بکواسی آدمی، بکو۔
۴۔ بَقَّ ـ بَقًّا و بُقُوقًا البيتُ: گھر میں بکثرت کھٹمل ہونا۔ بَـقَّـقَ و اَبَقَّ البيتُ: گھر میں بکثرت کھٹمل ہونا۔ البَقُّ واحد بَقَّة (ح): کھٹمل۔
۵۔ البقاق: گھر کا ردی اور ناکارہ سامان۔
۶۔ بَـقْـبَـقَ بَـقْـبَـقَةً الرجلُ: بہت بک بک کرنا۔ ـــ الـكـوزُ فـي الماءِ: پانی میں ڈوبتے وقت کوزے کا بک بک کرنا۔ ـــ تِ الـقـدرُ: ہانڈی کا ابلنا۔
البَـقْـبَـاق: باتونی،بکواسی۔ کہا جاتا ہے: رجـلٌ لقلاق بقباق: بہت بک بک کرنے والا آدمی۔

○ بَقّ: (اسم جنس واحد بَقَّة): کھٹمل۔ شـجـرة البَقّ: بوتیدار (elm) بَقَّ ـ بَقًّا: بافراط نکلنا۔ بَقَّاق: بکواسی، باتونی، بکو، بچوں کی سی باتیں کرنے والا۔
بَـقْـبَـقَ بَقْبَقَةً: (پانی کا) قلقل کرنا،گڑگڑ کرنا،غرغر بہنا، بڑبڑانا، سرسر بہنا، بچوں کی سی باتیں کرنا، بک بک کرنا،چڑ چڑ باتیں کرنا۔ بَـقْـبَاق: بـمـعـنـی بَقَّاق۔ بَقْبُوقَة: (کھال،جلد کا) چھالہ،آبلہ۔
بقج: البُقْجَة: کپڑے وغیرہ کی گٹھری،گٹھر،پوٹلی،بقچہ، پلندہ،بنڈل۔
بقد: بَقْدُونِس (ن): ایک قسم کی نبات۔اجمود جیسی ایک چیز،جس کی پتی خوشبودار ہوتی ہے۔اجوائن خراسانی۔
بقر: ۱۔ بَـقَـرَ ـ بَـقْـرًا ہ: کو پھاڑنا،کھولنا،وسیع کرنا۔ اُبْقُرَ المراۃُ عن جنينها: عورت کا پیٹ چیر کر اس کا بچہ نکالنا۔ اِنْـبَـقَر: پھٹنا،کھلنا،وسیع ہونا،وسط سے پھٹ جانا،شق ہو جانا۔ البَقير من النوق: وہ اونٹنی جس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا گیا ہو۔
۲۔ بَقِرَ ـ بَقَرًا: کمزور نظر والا ہونا،بمشکل دیکھنا۔
۳۔ تَبَقَّرَ الرجلُ: وسیع العلم اور کثیر المال ہونا۔
۴۔ بَـقَـر (اسـم جـنـس واحد بَقَرة (مذکر و مونث دونوں کے لئے) جمع بَقَرات و بَقَر و بُقَر و اَبْقُر و اَبْـقَـار و اَبـاقِـر و اَبـاقِير (ح): گائے،بیل۔
بـقـر وحشـي (ح): نیل گائے،جنگلی گائے،ہرن، پہاڑی بکرا، آہو،غزال، چکارا، مرگ، جنگلی گدھا۔
بقرُ الماء: گائے کی شکل کی مچھلی۔ عيونُ البقر: ایک قسم کا انگور۔ جـوعُ البـقـر: سخت بھوک۔
البَـقَّـار: گائے والا،گائے کا چرواہا۔ البـاقِـر و الباقور و البَيْقُور: گایوں کا گلہ،ریوڑ (اسم جمع)۔
فتنة باقِرَة: الفت مٹانے والا بڑا صدمہ۔ البَقِيرَة و البَقِير: عورتوں کا بغیر آستین والا قمیص۔ البُقَر و البُـقَّـارِي: جھوٹ،مصیبت۔ کہا جاتا ہے: جـاءَ فلانٌ بالصُقَر و البُقَر او الصُقَّاري و البُقَّاري: فلاں شخص جھوٹ اور مصیبت لایا۔ البُقَّيْرَى: بچوں کا ایک کھیل۔
○ بَقَرَ ـ بَقْرًا ہ و اَبْقَرَ ہ: کو پھاڑ کر کھول دینا، کاٹ کر زور سے کھولنا،کاٹ کر کھول دینا۔ بَـقَـر: (اسم جنس واحد بقرہ): بیل،گائے،ڈھور ڈنگر،مویشی جمع بقرات: گائے۔ بقَري: بیل کی طرح،ڈنگر جیسا،گوکا۔ بقَّار جمع بقَّارَة: گائے چرانے والا، گوالا،چرواہا۔
بقس: البَقْس واحد بَقْسَة (ن): ایک جنگلی درخت جس کی لکڑی قیمتی ہوتی ہے۔

۲۔ البقسمات: کیک کی ایک قسم (فارسی لفظ)۔
○ بَقْس: صندوق،پٹی،بکس،بکسا،صندوق بنانے کی لکڑی۔
○ بُقْسُمات: بسکٹ،رس (بسکٹ)، توس کے سکٹ جو خوب سیکے ہوئے ہوں۔
○ بُقْشَة: یمن کا تانبے کا سکہ۔
○ بـقـشيش جمع بقاشيش: بخشش،انعام،ٹپ، مالی تحفہ یا ہدیہ۔
بقط: ۱۔ بَقَطَ ـ بَقْطًا متاعَه: سفر کے لئے اپنا سامان جمع کرنا۔
۲۔ بَقَطَ ـ بَقْطًا الشيءَ: کو متفرق کرنا۔ ـــ فلانًا بستانَه: کو اپنا باغ تہائی یا چوتھائی پیداوار کی شرط پر دینا۔ بَقَّطَ الشيءَ: کو بکھیر دینا،کو متفرق کرنا۔
البَـقَـط: متفرق جماعت،کاٹتے وقت گری ہوئی کھجور۔ البُقْطة: زمین کا ایک حصہ۔
۳۔ بَـقَّـطَ ہ فـي الجبل: کو پہاڑ پر چڑھانا۔ تَبَقَّطَ الشيءَ: کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔ ـــ الخبرَ: خبر کو تھوڑا تھوڑا حاصل کرنا۔
بقع: ۱۔ بَقَعَ ـ بَقْعًا و بَقَعَ: جانا۔آپ کہتے ہیں: ما ادری این بقع؟: میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔
اِنْبَقَعَ: تیز جانا۔
۲۔ بَقِعَ ـ بَقْعًا فلانٌ بالشيءِ: پر اکتفا کرنا۔
۳۔ بَقِعَ ـ بَقَعًا الطيرُ: پرندہ کا مختلف رنگوں والا ہونا صفت: اَبْقَع مونث بَقْعاء جمع بُقْع۔ اُبْتُقِعَ لـونُـهُ: خوف یا غم سے کسی کا رنگ متغیر ہو جانا۔
اُمْتُقِعَ: میم سے فصیح تر ہے۔ الأبقع مونث بَقْعاء جمع بُقْع: سیاہ و سفید داغوں والا۔
۴۔ بَقَعَ ـ بَقْعًا المستقي: پانی مانگنے والے کے جسم پر پانی گرنے سے اس کے کچھ اعضاء کو تر کر دینا۔
بَقَّعَ الثوبَ: کپڑے کو رنگتے وقت اس میں سفید سفید داغ چھوڑ دینا۔ تَبَقَّعَ: کپڑے میں رنگتے وقت سفید سفید داغ رہ جانا۔ تَبَقَّعَتِ الثيابُ: کپڑوں کا بھیگ کر جگہ جگہ سے گیلا ہونا۔
۵۔ البُقْعَة و البَقْعَة جمع بقاع و بُقَع: ٹکڑا،زمین کا ایک خطہ یا قطعہ،مرتبہ۔کہا جاتا ہے: فلانٌ حسنُ البقعة عند الامير: فلاں شخص حاکم کے ہاں اچھا مرتبہ رکھتا ہے۔ البُقْعَة جمع بِقاع و بُقَع: دلدل۔ البَقِيع: مختلف درختوں کی جڑوں والی جگہ۔ ابنُ بقيع: کتا۔ الباقِعَة جمع بَوَاقِع بـاقِـع کا مونث: پرندہ جو شکار ہونے کے ڈر سے دلدلوں کا رخ کرے،زیرک شخص جسے فریب نہ دیا جا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سکے۔ کہا جاتا ہے: ما فلانٌ إلا باقِعَةٌ من البَوَاقِع: فلاں شخص بڑا چالاک ہے۔ بَقْعَاءُ: سَنَةٌ بَقْعَاء: سرسبزی وخشک سالی والا سال۔ الأَبْيَقَع: وہ سال جس میں بارش کم ہو۔

○ بَقَّعَ ہ: پرچتی ڈالنا، داغ یا نشان ڈالنا، پر دھبے ڈالنا، کو داغ دار کرنا۔ تَبَقَّعَ: داغدار ہوجانا، دھبے دار ہونا۔ بُقْعَة جمع بُقَع و بِقَاع: داغ، دھبہ، جگہ، موقع، قطعہ زمین، ٹکڑا، قطعہ، بقعہ۔ أَبْقَع: داغ دار، دھبے دار، چتلا۔ باقِعَة جمع بَوَاقِع: شرارت بھرا کتا، زیرک شخص۔

بقل: ۱۔ بَقَلَ ۓ بَقْلاً و بُقُولاً و أَبْقَلَ: ظاہر ہونا۔ — نابُ البعير: اونٹ کے کیلے نکلنا۔ — وجهُ الغلام: لڑکے کے چہرے پر سبزہ نکل آنا۔ بَقَّلَ وجهُ الغلام: لڑکے کے چہرے پر سبزہ کا آغاز ہونا۔

۲۔ بَقَلَ ۓ بَقْلاً و بُقُولاً و أَبْقَلَ المكانُ: جگہ کا ترکاری یا سبزی اُگانا۔ صفت: باقِل و بَقِيل و بَقِل۔ — لِبَعيرِهِ بَقْلاً: اپنے اونٹ کے لئے ساگ پات جمع کرنا۔ أَبْقَلَ القومُ: لوگوں کا سبزی پانا یا لوگوں کے مویشیوں کا سبزی چرنا۔ تَبَقَّلَ و إبْتَقَلَ: سبزی کی طلب میں نکلنا۔ — الماشيةُ: مویشی کا سبزی چرنا۔ البَقْل جمع بُقُول (ن): سبزی، ترکاری واحد بَقْلَة۔ بَقْلَةُ الحَمْقَاء و بقلة الزهراء و بقلة اللَّيِّنَة: خرفہ کا ساگ (جسے فرخین بھی کہا جاتا ہے)۔ البَقْلَةُ البَارِدة: عشق پیچہ۔ بقلة الانصار: کرم کلہ۔ الباقِلا و البَاقِلّي و الباقِلَى: لوبیا۔ ارضٌ بَقِلَةٌ و بَقِيلَةٌ و بَقَّالَةٌ و مَبْقَلَة: سبزی والی زمین۔ البَقَّال: سبزی فروش۔ المَبْقَلَة: سبزی والی جگہ۔

۳۔ البَقْلاوى: شہد بادا موں یا پستہ سے تیار کردہ پیسٹری (ترکی لفظ)۔

۴۔ البُوقال و الباقول جمع بَوَاقِيل: بے دستہ والا کوزہ، مٹی کی دوات (یونانی لفظ)۔

○ بَقَلَ ۓ بَقْلاً: (پودے کا) پھوٹنا، شاخیں نکالنا، اُگنا، سوئے نکالنا۔ بَقْل: (اسم جنس واحد بَقْلَة) جمع بُقُول و أَبْقَال: جڑی بوٹیاں، سبزی، ترکاری، جڑی بوٹیوں جیسے پودے خصوصاً پھلیاں، دانے، تخم، دالیں اور ترکاری۔ الفصيلة البقلية: پھلیاں۔ البقلة البارده: لوبیا۔ البقلة الحمقاء: لوبیا، باقلہ، خرفہ۔ بقلة الخطاطيف: پت پاپڑہ، شاہترہ۔ بَقَّال جمع بَقَّالون و بَقَّالَة: سبزی والا، کنجڑا، پنساری، کریانہ فروش۔ بِقَالَة: پنساری کا کاروبار۔

بقم: بَقَّمَ الثوبَ: کپڑے کو بقّم سے سرخ رنگنا۔ البَقَّم: ایک قسم کا درخت جس کی لکڑی کپڑے رنگنے کے کام آتی ہے۔ البَقَّامَة من الصوف: دھنتے وقت گر جانے والی روئی جسے کاتا نہ جاسکے، کمزور اور کم عقل شخص۔

○ بَقَّم: برازیلی لکڑی (brazilwood)

بقا: بَقَا ۓ بَقَاوَة و بَقِي - بَقْيًا فلاناً بعينه: کی طرف دیکھنا۔ — ہ: کا انتظار کرنا۔

بقي: بَقِيَ ۓ بَقَاءً و بَقِيٌ - بَقْيًا: رہنا، ثابت رہنا۔ أَبْقَى ہ: کو باقی رکھنا۔ أَبْقَى عليه: پر رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ بَقَّى ہ: کو ثابت کرنا، کو باقی رکھنا۔ تَبَقَّى: رہنا، ثابت رہنا۔ — ہ: کو ثابت کرنا، باقی رکھنا۔ إسْتَبْقَى ہ: کو ثابت کرنا، باقی رکھنا۔ — منه: کا کچھ حصہ چھوڑ دینا۔ الباقي مونث الباقية جمع الباقيات و البَوَاقِي: ثابت، باقی، اللہ تعالیٰ۔ البَقْوَى و البُقْوَى و البُقْيَا و البَقِيَّة جمع بَقَايَا: باقی ماندہ، باقی۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ بقيةُ قومه: فلاں شخص اپنی قوم کا چیدہ شخص ہے۔ المَبْقَى جمع المَبَاقِي: بقا، زندگی۔

○ بَقِيَ ۓ بَقَاءً: رہنا، ٹھہرنا۔ — على: کسی حالت یا شرط پر مسلسل ہونا، حالت یا شرط برقرار رکھنا۔ — پیچھے رہ جانا، بچ جانا، بچ رہنا۔ —: جاری رہنا، رہنا (جس کے بعد مضارع یا اسم مفعول یا اسم فاعل آئے)، کو کرتے رہنا، ہوجانا۔ لم يبق طفلاً: اب وہ بچہ نہیں رہا۔ بَقَّى ہ: کو چھوڑنا، بچانا، بچا رکھنا، پیچھے چھوڑ دینا۔ أَبْقَى ہ: کو روک لینا، ٹھہرانا، رکھنا، رہنے دینا، پابند خدمت کرنا، بلا تبدیلی چھوڑنا، ویسے ہی رہنے دینا یا چھوڑنا، برقرار رکھنا، قائم رکھنا، محفوظ رکھنا۔ — على: کسی شخص یا چیز کو چھوئے بغیر چھوڑنا یا رہنے دینا، کو بچانا، (جیسے) کی جان بچانا، کو چھوڑ دینا، پر رحم کرنا۔ تَبَقَّى على: کسی حالت یا کیفیت میں رہنا، ٹھہرنا، جاری رہنا، چھوڑا جانا۔ —: چھوڑ دیا جانا، بچ جانا، بچ رہنا۔ إسْتَبْقَى ہ: کو ٹھہرانا، کو ٹھہرنے کے لئے کہنا، روکنا، روک رکھنا، روکنا، بٹھائے رکھنا، منتظر رکھنا۔ — ہ/ہ: کو بچانا، کی حفاظت کرنا، سے درگزر کرنا۔ — ہ: کو محفوظ کرنا، کی حفاظت کرنا، رکھنا، قائم رکھنا، اپنے پاس رکھنا، کو مستقبل کے لئے جمع رکھنا، حفاظت کے لئے رکھنا، کا [illegible] بَقِيَّة [illegible] باقی [illegible] حصہ، پس ماندہ، رہا سہا، بچا کھچا، فضلہ، تلچھٹ۔ بقيةُ الدُّوَل: باقی ممالک، بقیہ ملک۔ البقية الباقية: آخری بقیہ۔ بَقَاء: رہنا، ٹھہرنا، دیر تک رہنا، باقی رہنا، برقرار رہنا، قائم رہنا، تسلسل، استمرار، دوام، ہمیشگی، مدت، زمانہ، عرصہ، میعاد، باقی رہنا، باقی بچ جانا، بقا، زندگی کے بعد زندگی کا تسلسل، حیات جاودان، ابدی زندگی، زندگی، وجود، پائیداری دارُ البقاء، اخروی زندگی۔ أَبْقَى: زیادہ پائیدار، زیادہ دائمی، زیادہ دیرپا، زیادہ مستقل، زیادہ استوار، زیادہ مستحکم، بعر محفوظ شدہ، حفاظت کرنے والا، نسبتاً طویل استعمال کا باعث۔ ابقاء: اجرا، استمرار، تسلسل، روکنا، روک کے رکھنا، برقرار رکھنا، قائم رکھنا، چالو رکھنا، تحفظ، بچانا، بچائے رکھنا، محفوظ رکھنا، حفاظت۔ ابقاء الحالة على ما كانت عليه: موجودہ حالت کو برقرار رکھنا۔ باقٍ: ٹھہرا ہوا، باقی، بقیہ، بچا ہوا، باقی (حساب کی اصطلاح میں)، پائیدار، جاری، مستقل، غیر منقسم، بچ جانے والا، ابدی، دائمی، لازوال۔ خدائے لم یزل۔ الباقياتُ الصالحات: نیک کام۔ مُتَبَقٍّ: بچا کھچا، بقیہ، باقی۔

بك: ۱۔ بَكَّ ۓ بَكًّا الرجلُ: محتاج ہونا۔ — الشيءَ: کو پھاڑنا، فسخ کرنا۔ — الدابَّةَ: جانور کو چلا چلا کر تھکا دینا۔ — ہ: کی مزاحمت کرنا۔ تَبَاكَّ القومُ: لوگوں کا ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا۔ — الشيءُ: چیز کا تہ بتہ ہونا۔

۲۔ البَاكّ: احمق، بے وقوف۔

۳۔ بَكْبَكَ و تَبَكْبَكَ القومُ عليه: پر لوگوں کا ہجوم کرنا۔ البكباكُ من الجموع: بہت۔ — من الرجال: سخت مزاج آدمی۔

بكا: ۱۔ بَكَأَ ۓ و بَكُؤَ ۓ بُكُوءاً و بَكَاءَةً و بَكَاءً او بُكَاءً و — تِ البئرُ: کنویں کا پانی کم ہونا۔ — تِ الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ — تِ العينُ: آنکھ کا آنسو کم نکلنا۔ صفت: بَكِيء و بَكِيئَة و بَكِيّ و بَكِيَّة جمع بكاء و بَكَايَا: کہا جاتا ہے: أيدٍ بِكَاء: کم بخشش دینے والے ہاتھ۔ أَبْكَأ الدَّرُّ أي اللبنَ: دودھ کو کم پانا۔

۲۔ بَكِئَ ۓ بَكْأً: اپنی حاجت نہ پانا۔

۳۔ البَكْ و البَكَا واحد بَكَاة (ن): آبی سلاد جیسا ایک پودا۔

○ بك: بے جمع بَكَوَات و بَهَوَات: شائستگی کا لقب۔ بِكَوِيَّة: بے کا رتبہ۔ بَكِيء جمع بِكَاء: تھوڑا رکھنے یا دینے والا، کفایت شعار

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(لفظوں کا)۔

○ بِکَاسِین: چہا۔ اسناف (تیز اڑنے والا ایک پرندہ)۔

○ بَکَالُورِیَا: فارغ التحصیل کی ڈگری۔ بَکالُورِیُوس: فارغ التحصیل (جس نے یونیورسٹی کی پہلی ڈگری حاصل کی ہو) بیچلر bachelor جیسے بی اے، بی ایس سی۔

○ بِکْبَاشِی: میجر (ملٹری کا ایک عہدہ)۔

بکت: ۱۔ بَکَتَ ۔ بَکْتًا ہ: کو تلوار یا لاٹھی سے مارنا، پر دلیل و حجت میں غالب آنا کہا جاتا ہے: بَکَتَهُ حَتّٰی أَسْكَتَهُ: وہ اس پر حجت میں ایسا غالب آیا کہ آخر اس کو خاموش کر دیا۔ بَكَّتَهُ: بمعنی بَکَتَهُ نیز کو زجر و توبیخ کرنا، سرزنش کرنا، اسی سے ہے: تبکیتُ الضمیر: ضمیر کی سرزنش۔

۲۔ بَکْتِیرِیَة (طب): جراثیم (واحد جرثومہ bacteria۔) البَکْتِیرِیُولُوجیا: علم جراثیم، جراثیمیات، جرثومیات bacteriology۔

○ بَکْتِیرِی: جراثیمی، جراثیم کا، جراثیم کے باعث bacterial۔

بکر: ۱۔ بَکَرَ ۔ بُكُورًا علیه و الیه: کے پاس صبح کے وقت آنا، جانا۔ ۔ فی الشیءِ: کو صبح کے وقت کرنا۔ أَبْكَرَ فلانًا: کے پاس صبح کے وقت جانا، آنا۔ بَكَّرَهُ: کے پاس صبح کے وقت جانا آنا۔ ۔ ہ علیهم: کو صبح کے وقت ان کے پاس بھیجنا۔ بَاكَرَهُ: کے پاس علی الصبح آنا۔ اِبْتَكَرَ فلانًا و علی فلانٍ: کے پاس صبح کے وقت آنا، جانا۔ البَاكِر (فا): اتاہ بكرًا: وہ اس کے پاس صبح سویرے آیا۔ البُكْرَة: صبح۔ آپ کہتے ہیں: اتیتُهُ بکرة: میں اس کے پاس صبح سویرے آیا۔

۲۔ بَكَرَ ۔ بُكُورًا: آگے بڑھنا، پیش رفت کرنا۔ بَكِرَ ۔ بَكَرًا إلی الشیءِ: کی طرف جلدی کرنا۔ أَبْكَرَ و بَكَّرَ: آگے بڑھنا، جلدی کرنا۔ تَبَكَّرَ: آگے بڑھنا۔ الضربةُ البِكْر: تلوار کی کاری یا کام تمام کرنے والی چوٹ۔ البَكِير و البَاكُور و البَكُور: اپنے وقت سے پہلے آنے والی ہر چیز۔ المِبْكَار جمع مَبَاكِر: ارضٌ مِبْكَار جلد اگانے والی زمین۔

۳۔ بَكَّرَ المُصَلِّي: نماز کے لئے شروع وقت میں آنا۔ بَاكَرَهُ: کسی چیز کے پہلے احوال میں اس پر سبقت لیجانا۔ اِبْتَكَرَ الفاكهةَ: پہلا پھل کھانا۔ ۔: کے پہلے حصہ پر قابو پانا۔ اسی سے ہے: ابتكار المعاني و غیرها: معانی وغیرہ کے پہلے حصہ پر قابو پانا۔ کہا جاتا ہے: معنی او فن مُبْتَكَر: غیر مانوس معنی یا فن۔ البِكْر جمع أَبْكَار: مذکر و مونث کیلئے: ماں باپ کا پہلا بچہ، ہر چیز کا اول، ہر کام جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ نارٌ بِكْرٌ: شروع میں جلائی ہوئی آگ۔ كَرْمٌ بِكْرٌ: انگور کا پہلا دانہ۔ البَاكُورَة جمع بَوَاكِير و باكورات: پہلا میوہ ہر چیز کا اول۔ البَكِير و الباكُورُ و البَكُور: مون سون موسم کی پہلی بارش۔ المُبْكِر (فا): موسم بہار کی پہلی بارش۔ البَكِيرَة جمع بَكَائِر: پہلا پکنے والا پھل یا کھجور کا درخت۔ المِبْكَار جمع مَبَاكِير: بمعنی البكيرة۔ البِكْرِيَّة و البُكُورِيَّة: پہلی اولاد و پہلی اولاد کی خاصیت یا حقوق۔

۴۔ البِكْر جمع أَبْكَار: کنواری، جوان گائے۔ الدُّرَّة البِكر: درناسفتہ۔ خَلٌّ بِكْرٌ: تیز سرکہ۔ البَكْر جمع أَبْكُر و بُكْران و بِكَار، و بِكارة مونث: بَكْرَة جمع بِكَار: جوان اونٹ۔ البَكَارَة: دوشیزگی، کنوارپن۔ البَكْرَة: جماعت۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا على بكرة أبيهم: وہ سب کے سب آئے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البَكْرَة جمع بَكْر و بَكَرات: چرخی (کہا جاتا ہے: و البكرات شرُّهُنَّ الصائمة: سب سے بری چرخی وہ ہے جو نہ گھومے)۔ لکڑی کا آلہ جس پر دھاگے لپیٹے جاتے ہیں، پھرکی، گٹی۔

○ بَكَرَ ۔ بُكُورًا: علی الصبح سفر پر روانہ ہونا، صبح سویرے اٹھنا۔ ۔ إلی: کے پاس صبح سویرے آنا، کسی جگہ صبح کو پہنچنا۔ بَكَّر بمعنی بَكَرَ نیز بَكَّرَ فی/ب: (جس کے بعد مصدر ہو) کو صبح سویرے کرنا، جلدی کرنا، قبل از وقت کرنا، وقت سے پہلے کرنا۔ بَاكَرَهُ: کے آگے ہونا، سے پہلے کرنا۔ أَبْكَرَ بمعنی بَكَّرَ۔ اِبْتَكَرَ ہ: کو سب سے پہلے لینا، کا سب سے پہلے آغاز کرنا۔ ۔ ھا: کنواری کا کنوارپن ختم کرنا۔ ۔ ہ: کو ایجاد کرنا، کی تخلیق کرنا، کو وجود میں لانا، کا موجد یا مخترع ہونا، کو شروع کرنا۔ بَكْر جمع أَبْكُر و بُكْران: جوان اونٹ۔ بِكْر جمع أَبْكَار: پہلا بچہ، سب سے بڑا (بچہ)، بے نظیر، انوکھا، نیا، باکرہ، ناکتخدا، دوشیزہ کی طرح۔ بِكْرِي: پہلا بچہ، پہلا۔ بِكْرِيَّة: کسی خاندان میں سب سے پہلے پیدا ہونے کی حقیقت۔ پہلوٹھا پن۔ بَكْرَة و بَكَرَة جمع بَكَر و بَكَرَات: پھرکی، گٹی، چرخی، ریل (reel) سپول (spool)، کوائل (coil)۔ خیط بكرة: دھاگا۔ علی بَكْرَةِ أبيهم، عن بكرة ابيهم اور عن بكرتهم: بلا استثناء سب، وہ سب کے سب، سب اکٹھے۔ خرجت الجماهير عن بكرتها: عوام الناس ایک آدمی کی طرح نکلے۔ بُكْرَة جمع بُكَر: علی الصبح، صبح سویرے۔ بُكْرَةً: علی الصبح، کل (آئندہ)، اگلے دن۔ بَكِير: جلدی آنے والا، جلد، قبل از وقت، قبل از وقت نشوونما پانے والا۔ بَكُور و بَاكُور: جلدی آنے والا، جلد، قبل از وقت، قبل از وقت نشوونما پانے والا۔ بُكُور: قبل از وقتی، قبل از وقت آمد۔ بكوري في العود: میری علی الصبح واپسی۔ بَكَارَة: پاکدامنی، کنوارپن، دوشیزگی۔ بَكَّارَة: چرخی۔ بَكَّارَة مركبة: چرخیوں کا جوڑا، گھرنی کوئی چیز اٹھانے کا آلہ جو رسیوں اور چرخیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بُكُورَة اور بُكُورِيَة: جیٹھائی: سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچہ کا جانشینی کا حق۔ بَاكُورَة جمع بَوَاكِير: پہلے شخص، پہلے نتائج، پہلے پھل، شروع، آغاز، شروع، ابتدائی، پہلا جمع بَوَاكِير: پہلے نشان، علامات، ابتدائی علامات، نقباء، پیش خیمے۔ باكورة الفواكه: پہلا پھل۔ كان باكورة أعماله: اس نے جو کام سب سے پہلے کیا وہ تھا۔ ۔ أَبْكَر: صبح سویرے اٹھنے والا۔ مِبْكَار: قبل از وقت نشوونما پانے والا۔ اِبْتِكَار جمع ابتكارات: انوکھی چیز، انوکھی بات، عجیب شے، ایجاد، اختراع، جدت، بدعت، تخلیق، ابتداء، آغاز، پہلی پیداوار، ابتدائی کارروائی، تخلیقیت، تخلیقی قوت جمع اِبْتِكَارَات: (خصوصاً) فیشن کی تخلیقات، فیشن کے ڈیزائن۔ بَاكِر: جلد، قبل از وقت۔ بَاكِرًا: صبح کو، علی الصبح۔ في الصباح الباكر: علی الصبح صبح سویرے۔ إلی باكر: کل تک۔ بَاكِرَة جمع بَوَاكِر: پہلے شخص، پہلی پیداوار، پہلے پھل، پہلی سبزیاں: پہلی علامات، پہلے نشان، نقباء، پیش خیمے۔ مُبَكِّر: جلدی کرنے والا، جلد۔ مُبَكِّرًا: علی الصبح، صبح سویرے۔ مُبْتَكِر: خالق، تخلیق کنندہ، تخلیقی، موجد، مخترع۔ مُبْتَكَر: نوایجاد، نیا، انوکھا، نرالا، عجیب، اولین، قدیم ترین، تخلیقی جمع مُبْتَكَرَات: تخلیق خصوصاً فیشن کی تخلیق، ایجاد۔ ثوبٌ مُبْتَكَرٌ: طبع زاد ڈیزائن، ماڈل، لباس کی تخلیق۔

○ بَكْرَج جمع بَكَارِج: کیتلی، قہوہ دانی، کافی کا برتن۔

بكس: بَكَسَهُ ۔ بَكْسًا: کو مغلوب کرنا۔

بكع: بَكَعَ ۔ بَكْعًا ہ: سے بدخلقی سے پیش آنا، کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بدن کے مختلف حصوں پر سخت چوٹیں لگانا، کو سرزنش کرنا۔ بَكَّعَ هُ: کو کاٹنا، خاموش کرنا۔ الأَبْكَعُ من النَّاس: ہاتھ کٹا آدمی۔

بکل: ۱۔ بَكَلَ ـُ بَكْلاً و بَكَّلَ الشيءَ: کو ملانا، خلط ملط کرنا۔ ـــ الرجلُ: آٹا، ستو، گھی یا زیتون ملا کر کھانا کھانا یا تیار کرنا۔ تَبَكَّلَ في الكلام: گفتگو میں گڑبڑانا۔ البَكَالةُ و البَكِيلَةُ (ط): ستو، گھی یا تیل میں ملا ہوا آٹا۔

۲۔ بَكَّلَ ـ الأزرارَ: بٹنوں کو ان کے کاجوں میں داخل کرنا، بٹن بند کرنا (عام زبان میں)۔ البُكْلَةُ: کاج، بکسوا، بکلس۔

۳۔ تَبَكَّلَ الرجلُ: مرفہ الحالی کی زندگی بسر کرنا، آسودہ حال ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو غنیمت کے طور پر لینا۔ اِبْتَكَلَ الشيءَ: کو غنیمت جان کر لینا۔ البَكِيلَةُ: غنیمت۔

۴۔ تَبَكَّلَ هُ و عليه: پر گالی گلوچ اور مار پیٹ سے غالب آجانا۔

۵۔ تَبَكَّلَ في مشيته: ناز سے چلنا۔ البِكْلَةُ جمع بِكَل: حال، ہیئت، لباس، طبیعت۔

۶۔ بكالوريا: ثانوی کے آخری امتحان میں کامیاب ہونے پر طلبہ کو ملنے والی ڈگری۔

۷۔ البكـلـيك: حکومتی ممتلکات اور غیر منقولہ جائیدادیں۔ اصل میں بے کے خصوصی اختیار (ترکی لفظ)۔ خزانہ، ریاست، حکومت۔

○ بَكَّلَ هُ: کو بکلس یا بکسوا لگانا، بٹن لگانا، (ہاتھ) باندھنا، (بازو) ایک دوسرے پر رکھنا۔ بُكْلَةٌ جمع بُكَل و بُكلات: بکلس، بکسوا۔

○ بكلاه: کاڈ (مچھلی)۔

○ بَكَلُورِيُوس: فارغ التحصیل (علمی سند)۔

بكم: بَكِمَ ـَ بَكَمًا و بَكَامَةً: گونگا ہونا۔ صفت: أَبْكَمُ جمع بُكْم و بُكْمَان۔ بَكُمَ ـُ بَكَامَةً: جان بوجھ کر چپ رہنا۔ تَبَكَّمَ الكلامُ عليه: بول نہ سکنا، گفتگو نہ کرسکنا۔

○ بَكِمَ ـ بَكَمًا و بكامةً: گونگا ہونا۔ بَكُمَ ـ بَكَامَةً: چپ ہونا، خاموش ہونا، اپنی زبان روکنا۔ أَبْكَمَ هُ: کو خاموش کرنا۔ تَبَكَّمَ: خاموش ہو جانا، گونگا ہو جانا۔ بَكَم: گونگا پن۔ أَبْكَم مونث بَكْماء جمع بُكْم: گونگا۔

بكى: بَكَى ـِ بُكاءً و بُكًى: رونا صفت: باكٍ جمع بُكاة مونث باكية جمع باكيات و بَوَاكٍ۔ ـــ الميتَ: میت پر رونا، بین کرنا۔ بَكَّى الميتَ: میت پر رونا، بین کرنا۔ ـــ الرجلَ: کو رلانا۔ أَبْكَى الرجلَ: کو رلانا۔ تَبَاكَى: بناوٹی رونا رونا۔ اِسْتَبْكَاهُ: کو رونے کے لئے کہنا، کو رلانا۔ البَكَّاءُ و البَكِيّ: بہت رونے والا۔ التَبْكاء و التِبْكاء: رونا یا رونے کی کثرت۔ المَبْكَى جمع مَبَاكٍ: رونے کی جگہ۔ حائطُ المبكى: دیوار گریہ: قدس شریف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی بچ رہنے والی ایک دیوار، جس کی یہودی زیارت کرتے ہیں اور اس کے قریب روتے ہیں۔

○ بَكَى ـ بُكاءً و بُكًى على: پر رونا، گریہ وزاری کرنا۔ ـــ هُ: کا ماتم کرنا، پر آہ و بکا کرنا، کا افسوس کرنا۔ بَكَّى و أَبْكَى هُ: کو رلانا۔ اِسْتَبْكَى هُ: کو رلانا، رلا دینا۔ بَكَّاء: اکثر روتے رہنے کا عادی، اشکبار، آبدیدہ، بات بات پر رو دینے والا۔ باكِيَة جمع بَوَاكٍ: گریہ وزاری کرنے والی، کرایہ کی سوگ منانے والی، ماتم کرنے والی۔ مُبْكٍ و مُبْكٍ: آنسو آور، اشکبار، آبدیدہ، غمگین، افسوسناک، شرمناک۔

○ بكين: پیکنگ: چین کا دارالحکومت۔

بَلْ: حرف عطف، اپنے سے پہلے کہی ہوئی بات سلب کر کے اسے بعد کی کہی ہوئی بات سے متعلق کرتا ہے۔ یوں ادعا اور امر کے بعد کنارہ کشی کے لئے آتا ہے جیسے قطف لأزهار بل الاثمار میں۔ جس کا معنی ہے: اس نے پھول نہیں توڑے بلکہ پھل توڑے۔ نفی اور نہی کے بعد تصحیح کے لئے بھی آتا ہے جیسے: ما ذهب زيدٌ بل عمرو: زید نہیں گیا بلکہ عمرو گیا۔ اس جملہ میں زید کے جانے کی نفی کی گئی ہے اور جانے کا عمل عمرو کے متعلق ثابت کیا گیا ہے۔

بلّ: ۱۔ بَلَّ ـِ بَلًّا و بَلَلًا و بُلُولاً من مرضه: بیماری سے صحتیاب ہونا، تندرست ہونا۔ أَبَلَّ من مرضه: بیماری سے صحت یاب ہونا۔ اِبْتَلَّ و تَبَلَّلَ و اِسْتَبَلَّ من مرضه: بیماری سے صحت یاب ہونا۔ البِلّ: شفاء، صحت یابی، صحت۔ الأَبَلّ: زیادہ مناسب و موافق۔ کہا جاتا ہے: لا شيءَ أَبَلُّ للجسم من كذا: جسم کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز زیادہ مناسب و موافق نہیں۔

۲۔ بَلَّ ـُ بَلًّا و بِلَّة و بَلَلًا يده: کو دینا۔ البِلَّة: رزق، خیر۔

۳۔ بَلَّ ـ بَلَلًا و بَلالاً بكذا: کو حاصل کرنا، جیتنا، پالینا۔ کہا جاتا ہے: اذا بلّت بقائمه يدى: جب ... جاتا ہے: لا احلّها لمغتسل وهي لشارب حلٌّ و بلٌّ: میں اس کو نہانے والے کے لئے حلال نہیں ٹھہراتا، البتہ پینے والے کے لئے وہ حلال و مباح ہے۔

۴۔ بَلَّ ـ بَلًّا في الأرض: زمین میں جانا۔ أَبَلَّ هُ في الارض: کو زمین میں لے جانا۔ ذو بِلَّى و بَلًّى و بِلِيَّان: دورافتادہ غیر معلوم جگہ۔ کہا جاتا ہے: هو بذي بِلَّى: وہ ایک دورافتادہ نامعلوم جگہ پر ہے۔

۵۔ بَلَّ ـ بَلًّا و بَلَّةً و بَلَلًا هُ بالماء: کو پانی سے تر کرنا۔ ـــ بُلُولاتِ الريحُ: سرد ہوا کا چلنا۔ بَلَّلَ الثوبَ: کپڑے کو تر کرنا۔ تَبَلَّلَ و ابْتَلَّ: تر ہو جانا۔ ابَلَّ العودُ: لکڑی میں تری کا ہونا۔ ـــ الشجرُ: درخت کا پھل دار ہونا۔ البِلَّة: تری۔ البَلَّة: جوانی کی تروتازگی۔ ـــ من الرياح: مرطوب ہوا۔ کہا جاتا ہے: جاء فلانٌ فلم ياتنا بهَلَّةٍ ولا بَلَّة: وہ کوئی خوشی اور خیر لے کر نہیں آیا۔ ما اصاب هَلَّةً و لا بَلَّةً: اسے کچھ نہیں ملا۔ البُلالَة: تری، اتنی مقدار جس سے کوئی چیز تر کی جا سکے۔ البِلاَلُ و البَلالُ و البُلاَلُ: تری، پانی، دودھ یا پانی کی اتنی مقدار کہ اس سے حلق تر ہو جائے۔ البَلِيلُ و البَلِيلَةُ: ٹھنڈی مرطوب ہوا۔ البَلاَّن: حمام کا خدمت گار، حمام میں نہلانے والا ـــ جمع بلاَّنات: حمام۔

۶۔ البِلّ: چالاک۔ کہا جاتا ہے: هو بِلُّ أَبْلال: وہ چالاکوں کا چالاک ہے۔ الأَبَلُّ مونث بَلاَّء جمع بُلّ: سخت کنجوس، بدکار۔ المِبَلّ: مستقل۔ خصم مِبَلٌّ: وہ مستقل جھگڑالو ہے۔ البُلْلَة: ہیئت، حال۔ کہا جاتا ہے: طويتُ السقاءَ على بُلْلَتِهِ و بَلَلَتِهِ: میں نے مشک کو لپیٹ لیا جب کہ وہ تر ہی تھی۔ طويتُ فلاناً على بَلَلَتِه بُلُلَتِه و بُلَلَتِه و بَلَّتِه و بُلَّتِه و بُلاَلَتِه: میں نے فلاں شخص کو اس کے عیب اور برائی کے باوجود برداشت کیا۔ البُلالَة: تھوڑی سی چیز۔ البَلاَّن واحد بَلاَّنة (ن): ایک خاردار پودا۔ جس زمین پر اگتا ہے وہ زراعت کے قابل نہیں رہتی۔

۷۔ بَلْبَلَ بَلْبَلَةً و بِلْبالاً القومَ: لوگوں کو بھڑکانا، غم میں مبتلا کرنا۔ البَلْبَال: سخت غم۔

۸۔ بَلْبَلَ بَلْبَلَةً و بِلْبالاً الألسنةَ: زبانوں کو خلط ملط اور گڑبڑ کرنا۔ ـــ الآراءَ: رایوں کو خراب کرنا، آراء کو بگاڑنا۔ ـــ الأمتعةَ: سامان بکھیرنا۔ تَبَلْبَلَ: بھڑکنا، غم میں مبتلا ہونا۔ تَبَلْبَلَتِ الألْسُنُ في

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بابل: بابل شہر میں زبانیں بگڑ گئیں، گڈمڈ ہوگئیں۔

۹۔ البُلبُل جمع بَلابِل (ح): بلبل۔ بلبلُ الإبریق: لوٹے کی ٹونٹی، عوام کے نزدیک بلبل بچوں کے ایک کھلونے کا نام ہے لیکن اس کے لئے فصیح لفظ الدُوّامَة (لٹو) ہے۔

○ بَلَّ ۔ بَلاًّ ہ/ہ: کوتر کرنا، بھگونا۔ ــــ من مرض: بیماری سے صحت یاب ہونا۔ بَلَّلَ ہ/ ہ: کوتر کرنا، بھگونا۔ ابَلَّ من مرض: بیماری سے صحت یاب ہونا، شفا پانا۔ تبَلَّلَ و اِبْتَلَّ: تر ہونا، بھیگنا، نم ہونا۔ بَلّ: ترکرنے والا، بھگونے والا، نمی، تری، سیل، رطوبت، گیلا پن۔ بِلّ: صحت یابی، افاقہ، شفایابی۔ بِلَّة: نمی، تری، رطوبت، سیل، ہوا میں رطوبت۔ مازاد الطینَ بلّةً: جس سے معاملہ اور زیادہ خراب ہوگیا۔ بَلَل: نمی، تری، رطوبت، ہوا میں رطوبت۔ بَلِیل: نم اور ٹھنڈی ہوا۔ بَلِیلَة: دم پخت مکئی اور چینی سے بنا ہوا ایک کھانا۔ اِبلال: صحت یابی، افاقہ، شفایابی۔ تَبَلُّل: نمی، رطوبت، ہوا میں رطوبت، سیل۔ مَبْلُول و مُبَلَّل و مُبْتَلّ: نم، تر، بھیگا ہوا، مرطوب۔ بِلّی: کری بِلّی: گولی، گولی دار دھرا ball bearing۔

○ بَلاتِین: پلاٹمن، پلاٹینم Platinum۔

بلت: ا۔ بَلَتَ ۔ بَلْتًا الشیءَ: کوکاٹنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ ــــ ۔ بَلْتًا و بَلِتَ ۔ بَلَتًا و اِنْبَلَتَ: " کٹنا، منقطع ہونا۔ ابْلَتَ الرجلُ: گفتگو سے رک جانا۔ البَلِیت او البِلِّیت: مختصر کلام کرنے والا فصیح، عاقل، دانا، عقلمند۔ المُبَلَّت: آراستہ کلام۔

۲۔ ابْلَتَ ہُ یمیناً: کوقسم دلانا۔

بلج: ا۔ بَلَجَ ۔ بُلُوجًا و أَبْلَجَ و تَبَلَّجَ و اِنْبَلَجَ و اِبْتَلَجَ الصبحُ: صبح کا روشن ہونا۔ بَلِجَ ۔ بَلَجًا الحقُ: حق ظاہر ہونا۔ صفت: أَبْلَج مونث: بَلْجاء۔ اِبْلاجَ و اِبْلاجَّ اِبْلِیجَاجًا: ظاہر ہونا، آشکارا ہونا۔ البُلْجة و البَلْجَة: سپیدہ صبح، پو پھٹنے کا وقت، علی الصباح۔

۲۔ بَلِجَ ۔ بَلَجًا صدرُہُ: کا انشراح صدر ہونا۔ ــــ الوجُلُ: ہنس مکھ ہونا۔ تَبَلَّجَ اِلیہ: پر ہنسنا، ہشاش بشاش ہونا۔ البَلْج و البَلِج: ہنس مکھ، کشادہ رو۔ الأَبْلَج: خوش، شادان، مسرور، خوش مزاج، ہنس مکھ، پرسکون، متین، روشن، چمکدار، منور، تاباں، واضح، صاف، حسین، خوبصورت، خوش اخلاق۔ البُلْجَة والبُلْجَة و البَلَج: ابروؤں کے درمیان کشادگی۔

○ بَلاج: جھیل یا سمندر کا کنارہ۔

○ بَلاجَرا: ناکافی خوراک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری اس سے جلد پھٹ جاتی ہے اور اکثر پاگل پن پر منتج ہوتی ہے (pellagra)۔

○ بَلارَج: بگلا، لقلق۔

○ بلاستیك: پلاسٹک (plastic)

○ بلاك: سپارک پلگ، آتش زن spark-plug۔

○ بَلْبَطَ: قل قل کرنا، گڑگڑ کرنا۔

○ بَلْبَلَ ہ/ ہ: کوپریشان کرنا، بے چین کرنا، تشویش میں ڈالنا، کوجوش میں لانا، بھڑکانا، برانگیختہ کرنا، گڈمڈ کرنا، درہم برہم کرنا، خلط ملط کرنا، بوکھلانا۔ تبَلْبَلَ: بے چینی محسوس کرنا، پریشان و مضطرب ہونا، گڈمڈ ہونا، بوکھلا جانا۔ بَلْبَلَة جمع بَلابِل: پریشانی، تشویش، بے چینی، فکر، گڑبڑ، تری، گھبراہٹ، بے ترتیبی، سخت بدنظمی، خلل، اختلال۔ بَلْبَال: پریشانی، بے چینی، قلق، تشویش۔ بَلابِل: پریشانیاں، اندیشے۔ تَبَلْبُل: ابتری، گڈمڈ، گڑبڑ، پریشانی، گھبراہٹ۔ تبلبُلُ الألْسِنَةِ: زبانوں کی گڑبڑ (برج بابل پر)۔

○ بَلَجَ ۔ بُلُوجًا: چمکنا، صبح کا روشن ہونا۔ بَلِجَ ۔ بَلَجًا ب: پرخوش ہونا، محظوظ ہونا۔ ابْلَجَ: (سورج کا) چمکنا۔ تبَلَّجَ و اِبْتَلَجَ بمعنی بَلَجَ۔ ابتلاجُ الفجر: سویرا، تڑکا، فجر۔

○ بِلْجِيكا: بلجیئم (ایک ملک کا نام) Belgium۔ بِلْجِيكِي: بلجیئم کا باشندہ، بلجیئم کا یا بلجیئم سے متعلق (اسم وصفت)۔

بلح: ا۔ بَلَحَ ۔ بَلْحًا الثرَی: تری کا خشک ہونا۔ کیچڑ کا خشک ہونا۔ ــــ ت البئرُ: کنویں کا پانی سوکھ جانا صفت: بَلُوح۔ البَالِح جمع بَوَالِح: وہ زمین جس میں کچھ نہ اگے۔

۲۔ بَلَحَ ۔ بَلْحاً الغریمُ: قرضدار کا مفلس اور نادار ہونا۔ ــــ بُلُوحًا و بَلَّحَ و تَبَلَّح: تھکنا، عاجز ہونا۔ کہا جاتا ہے: بَلَحَ و بَلَّحَ عَلَّی: میں نے اس کے پاس کچھ نہیں پایا۔

۳۔ بَلَحَ ۔ بَلْحًا الرجلُ بِشهادتہ: شہادت کو چھپانا۔ ــ الرجلُ بالامر: کسی بات سے انکار کرنا۔ تَبَالحا: باہم انکار کرنا۔

۴۔ بَالَحَ القومَ: بلاحق کے لوگوں سے جھگڑا کرانے پر غالب آنا۔

۵۔ ابْلَحَ النخلُ: درخت خرما پر کچی کھجوریں نکل آنا۔ البَلَح (ن): کچی کھجور۔

۶۔ البُلَح جمع بِلْحان (ح): گدھ سے کچھ بڑا ایک پرندہ۔ بُلَحاء (ن): ایک خوشبودار پھولوں والا پودا۔

○ بَلَح: (اسم جنس واحد بلحة) کھجوریں۔

بلخ: بَلِخَ ۔ بَلَخًا و تَبَلَّخَ: تکبر کرنا، احمق ہونا صفت: ابْلَخ مونث بَلْخاء، و بِلخ و بَلْخ۔ البَلْخ و البُلاخ (ن): شاہ بلوط کا درخت۔

بلد: ا۔ بَلَدَ ۔ بُلُودًا بالمکان: جگہ میں قیام کرنا، کو شہر بنانا۔ صفت: بَالِد جمع بَلَدَة۔ بَلَّدَہ (فی اصطلاح البعض): کوشہر کی آب و ہوا کا جس میں رہتا ہو عادی بنانا۔ اسی سے ہے: حدیقةُ ا ــــ وہ باغیچہ جہاں پر نباتات اور حیوانات کو اس شہر کی آب وہوا کا عادی بنایا جائے جس میں انہیں منتقل کیا گیا ہو۔ أَبْلَدَ القومُ: شہر میں مستقل رہنا۔ ــــ کوشہر میں مستقل رکھنا۔ تَبَلَّدَ القومُ: ویراں جگہ میں آباد ہونا، شہر کی آب وہوا کا عادی ہو جانا۔ البـ ــ جمع بلاَد و بُلْدان: کوئی جگہ، آباد ہو یا غیر آباد، قبر۔ البَلَدان: بصرہ اور کوفہ۔ البَلْدَة جمع بِلاد و بُلْدان: کوئی جگہ آباد ہو یا غیر آباد، شہر جیسے شام میں دمشق اور عراق میں بصرہ۔ قصبہ، گاؤں، جگہ، جس میں آپ رہتے ہوں، متوسط رقبہ کا شہر۔ البَلَدِيّ: ملک شہر، قصبہ، گاؤں کا یا کے متعلق۔ إنْتَاجٌ بَلَدِی: ملکی پیداوار۔ البَلَدِيَّة یا المجلس البَلَدِيّ: میونسپلٹی، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن۔ البِلاَد مفرد بَلَد و بَلْدَة: ملک، وطن۔ بِلادُ العالَم: دنیا کے ممالک میں سے ہر ملک۔ الدفاع عن البلاد: ملک کا دفاع۔ مصالِحُ البلاد: ملک کے مفادات، مصلحتیں۔ یا بلادی: اے میرے وطن، اے وطن۔ البُلْدَان مفرد بَلَد و بَلْدَة: تمام ممالک، تمام وطن۔ بُلْدَان العالم: دنیا کے ممالک۔

۲۔ بَلُدَ ۔ بَلادَةً: کند ذہن ہونا۔ صفت: بلید و ابْلَد۔ بَلَّدَ: کمزور رائے والا ہونا، کم ہمت ہونا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا آگے نہ آنا۔ ــــ السحابةُ: بادل کا نہ برسنا۔ ــــ الرجلُ: بخیل ہونا۔ تَبَلَّد: کند ذہن ہونا، کند ذہن بننا یا ظاہر کرنا، حیران ہو کر ہچکچانا۔ المَبْلُود: متحیر، بے وقوف، پاگل۔

۳۔ بَلِدَ ۔ بَلَدًا: کشادہ ابرو ہونا، صفت: ابْلَد۔ تَبَلَّدَ الصبحُ: صبح کا روشن ہونا، آشکارا ہونا۔

۴۔ تَبَلَّدَ: افسوس کرنا۔ ــــ الرجلُ: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا، غم یا درد سے۔

۵۔ البُلْدَة: سینہ۔ کہا جاتا ہے: هو واسِعُ البُلْدَة: وہ کشادہ سینے والا ہے۔

marfat.com

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

○ بَلُدَ ـ بَلَادَةً: بیوقوف ہونا، احمق ہونا، کندذہن ہونا۔ بَلَّدَ ہ: کوکسی (ملک یاعلاقہ) کی آب وہوا کا عادی بنانا، خوگر بنانا۔ تَبَلَّدَ: کسی ملک یاعلاقے کی آب و ہوا کا عادی ہونا، خوگر ہونا، بے وقوف ہوجانا، بے حس ہو جانا، حماقت کی حالت میں گرنا، اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرنا۔ تَبَالَدَ: بے وقوفی کا حیلہ کرنا، تصنع کرنا۔ بَلَد (مذکر و مونث) جمع بِلَاد: ملک، قصبہ، شہر، جگہ، گاؤں، کسی علاقے کی پوری آبادی۔ بِلاَد: ملک۔ بُلْدَان: ممالک۔ بلادُ الحبش: حبشہ۔ بلادُ الصین: چین china۔ بلادُ الهند: ہندوستان India۔ بَلْدَة: قصبہ، شہر، جگہ، کسی علاقہ کی پوری آبادی، گاؤں، دیہاتی آبادی، بستی (township)۔ بَلَدی: دیسی، ملکی وطن کا، مرز بوم کا، وطنی، (ہم) شہری، ہم وطن، دیہاتی، مقامی، (کا) باشندہ، بلدیاتی۔ مجلسٌ بَلَدِیٌّ: سٹی کونسل، لوکل کونسل۔ بَلَدِیَّة جمع بلدیات: بستی، آبادی، دیہی آبادی، وارڈ (شہر کا) علاقہ، بلدیہ، میونسپلٹی، میونسپل کونسل، لوکل اتھارٹی۔ بَلِید و اَبْلَد: بیوقوف، کندذہن، احمق۔ بَلَادَة: بے وقوفی، حماقت، سادہ لوحی۔ تَبَلُّد: حماقت، بے وقوفی، افسردگی، کندذہنی، بے حسی، بے اعتنائی، سرد مہری، مردہ دلی۔ مُتَبَلِّد: بے وقوف، بے حس، مدہوش، کندذہن، غبی۔

بلذ: البَلاَذُر (ن): ایک درخت جس کی لکڑی سے فرنیچر بنایا جاتا ہے اور اس کے تنے سے کئی قسم کی گوند نکلتی ہے۔

بلر: تَبَلَّرَ و تَبَلْوَرَ: بلور کے مشابہ ہونا۔ البَلُّور و البِلَّور: ایک قسم کا شیشہ، شفاف اور سفید جوہر۔

بلز: الاِبْلِیز و طِینُ الاِبْلِیز: مصر کی مٹی جو دریائے نیل سیلاب کے بعد چھوڑ جاتا ہے۔

بلس: ۱۔ اَبْلَسَ: بے خبر ہونا، شکستہ دل اور غمگین ہونا۔ ــــ فی امرہٖ: کے کسی کام میں حیران ہونا صفت: بَلِس و مُبْلِس۔ ــ ہ: کو متحیر کرنا۔ ــ من رحمة اللّٰہ: اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ البَلَس: بے خیر آدمی۔ اِبْلِیس جمع اَبَالِیس و اَبَالِسَة: شیطان کا عَلَم جنس ہے۔

۲۔ البَلاس جمع بُلُس: ٹاٹ، بالوں کا بنا ہوا فرش۔ البَلاَّس: ٹاٹ بیچنے والا۔

۳۔ البلاستیك (ف ج): اشخاص اور اشیاء کے کردار ادا کرنے کا فن (تصویر کشی یا مٹی، لکڑی، کھریا مٹی یا دھات سے مجسمے یا چھوٹے کرداروں کے ذریعے)۔ (ك): پلاسٹک Plastic۔

۴۔ بَلْسَمَ: گھبراہٹ سے چپ ہوجانا۔ ــــ ہ: کو مکروہ چہرے والا بنادینا۔ بُلْسِمَ: مکروہ چہرے والا ہونا، برسام میں مبتلا ہونا۔ تَبَلْسَمَ: گھبراہٹ سے چپ ہوجانا۔ البَلْسَم (طب): گوند جیسا مادہ جس سے زخموں پر لیپ کیا جاتا ہے، ایک عطر والا سائل۔ البلسام (طب): برسام۔

۵۔ البَلْسَان (ن): ایک درخت سفید چھوٹے پھولوں والا جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔ البُلْسُن (ن): مسور، مسور کے مشابہ ایک قسم کا دانہ۔ البیلسان او الخَمَان (ن): یورپ اور شمالی ایشیا کا ایک درخت جس کے پھول سفید اور چوڑے ہوتے ہیں آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے، اور کئی فوائد کا حامل ہے۔

○ بَلَسَان: روغن بلسان، گلمہندی، مرہم، طلاء، خوشبودار مرہم یا لیپ، بعض درختوں کا خوشبودار پانی، بلسام کا درخت، سفید خوشبودار پھولوں والا پودا۔

○ بَلْسَم جمع بَلاَسِم: بلسام، گل مہندی، مرہم۔ بَلْسَمِی: بلسامی، گل مہندی کا، خوشبودار۔

بلش: البَلَشُون (ح): بگلا، بوتی مار، یہ پرندہ مالک الحزین کے نام سے مشہور ہے۔

○ بَلْشَفَ: انتہاء پسند ہونا، بالشویک ہونا، اشتمالی ہونا، انقلاب پسند ہونا، عوامی آمریت کا حامی ہونا۔ بلشفة: انتہاپسندی، اشتمالیت۔ بُلْشِفِی جمع بَلاَشِفه: انتہاپسند، اشتمالی، بُلْشِفیة: اشتمالی انتہا پسندی، انتہاء پسند اشتمالیت۔

بلص: ۱۔ بَلَصَ ـ بَلْصًا ہُ: کا مال لے لینا اور اس کے پاس کچھ نہ چھوڑنا۔ بَلَّصَ فلاناً من مالِہٖ: سے زبردستی اس کا مال لے لینا۔ البَلْص: رعیت سے ظلماً اور ناجائز طور پر مال لینا۔

۲۔ بَالَصَ ہُ: پر کود پڑنا۔ تَبَلَّصَ الشیءَ: کسی چیز کو خفیہ طور پر طلب کرنا۔ ــ ت الغنمُ: بھیڑ بکریوں کا کم دودھ والی ہونا۔

۳۔ البَلَّصُوص جمع بَلَنْصَی (ح): ایک پرندہ کا نام۔ البَلُّوصی (مو): بانسری کا آواز دینے والا حصہ جسے بجاتے وقت منہ میں رکھا جاتا ہے۔

○ بَلَصَ ـ بَلْصًا و بَلَّصَ ہ من: سے کوئی چیز زبردستی حاصل کرنا، لے لینا، اینٹھ لینا، بزور یا بالجبر لینا، جبراً وصول کرنا۔ ــــ ہ: کو بلیک میل کرنا، سے افشائے راز کی دھمکی دے کر رشوت لینا۔ بَلْص: زبردستی حاصل کرنا، اینٹھنا، بلیک میل، زبردستی ٹیکس عائد کرنا۔ [illegible]

بلط: ۱۔ بَلَطَ ـ بَلْطًا و بَلَّطَ و أَبْلَطَ الدارَ: گھر میں پتھر کے چوکوں کا فرش کرنا۔ أَبْلَطَ اللِصُّ الرجُلَ: چور کا کسی آدمی کا تمام مال چرالینا۔ ــــ و أُبْلِطَ: زمین سے چمٹنا محتاج و فقیر ہونا۔ البَلاَط: پتھر کے چوکے جن سے فرش تیار کیا جاتا ہے۔ بَلاَطُ المَلِك: بادشاہ کا محل، مجازاً: شاہی مجلس، شاہی سرغنے، قائدین زعماء، ہموار و برابر زمین۔

۲۔ بَلَّطَ الرجُلُ: چلتے ہوئے تھک جانا۔ بَالَطَ فی اُمُورِہ: میں مبالغہ کرنا۔

۳۔ بَالَطَ ہُ: کو چھوڑ کر بھاگ جانا۔ ــ القومُ: آپس میں تلوار سے لڑنا۔ تَبَالَطَ القومُ: آپس میں تلوار سے لڑنا۔

۴۔ البَلُّوط: واحد بَلُّوطَة (ن): ایک بڑا درخت جس کا تنہ موٹا اور لکڑی مضبوط ہوتی ہے، بلوط کا پھل۔ البَلُّوطُ العفصِیّ (ن): بلوط کا پھل۔ بَلُّوطُ الارض: کاسنی کے مشابہ پتوں والی نبات۔ شاہ بَلُّوط (ن): شاہ بلوط، کستنا۔ البُلْطِیّ (ح): ایک قسم کی مچھلی جسے مشط بھی کہا جاتا ہے۔

۵۔ البَلْطَة: تیشہ، تبر، کلہاڑی جمع بَلْطَات و بُلَط۔ البَلْطِجِیّ: سفرمینا کا سپاہی۔

۶۔ بَلْطَخَ: زمین پر لیٹ جانا۔ ــ الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔

○ بَلَّطَ ہ: کا فرش (پتھر کی سلوں یا ٹائلوں سے) باندھنا۔ بَلاَط: فرش، ٹائلوں کا فرش، فرش کی ٹائلیں، محل۔ جمع أَبْلِطَة: فرش کی ٹائلیں۔ البَلاَطُ المَلَکِیّ: قصر شاہی، شاہی دربار۔ حداد البلاط: درباری ماتم، سوگ۔ بَلاَطَة: فرش کی ٹائل، فرش کا پتھر، پتھر کی سل، فرشی پتھر۔ تبلیط: فرش بندی، ٹائلیں بچھانا۔ مُبَلَّط: پتھروں یا ٹائلوں سے فرش کیا ہوا، ٹائلیں لگا ہوا۔ بلوط: بلوط، شاہ بلوط، شاہ بلوط کا پھل۔ بَلَطہ: گوند۔ بَلْطُو جمع بَلْطُوات و بَلاَطِی: اوورکوٹ، ڈھیلا لبادہ، چغہ، فرغل۔ بُلْطِیّ: دریائے نیل کی ایک مچھلی کا نام، جو کھائی جاتی ہے۔

○ البَلْطِیق: بالٹک ممالک Baltic countries۔ بحرُ البَلْطِیق: بحر بالٹک Baltic sea۔

○ بالُوظَة: دستی پریس Hand press، کریم کی ایک قسم جو اناج کے نشاستہ، لیمو کے رس اور شہد وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔

بلع: ۱۔ بَلِعَ ـ بَلْعًا و اِبْتَلَعَ الشیءَ: کو نگلنا۔ بَلَّعَ و أَبْلَعَ ہُ الشیءَ: کو کوئی چیز نگلوانا۔ کہا جاتا ہے:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بَلَّغَهُ رِيقَهُ: اس نے اسے اتنی مہلت دی کہ تھوک نگل لے۔ تَبَلَّغَهُ: کا گھونٹ لینا۔ البُلَعَةُ: بسیار خور آدمی۔ البُلْعَةُ جمع بُلَعٌ: چکی کا سوراخ۔ البَلُوع: بہت نگلنے والا۔ المَبْلَعُ: حلق۔ المِبْلَع: پیٹو، بسیار خور۔ البَالُوعَة و البَلاَّعَة و البَلُّوعَة جمع بَوَالِيع و بَلاَلِيع: گھر کے درمیان بہنے والی گندی نالی، بدرو۔

۲۔ بَلَّعَ و تَبَلَّعَ الشيبُ في رأسه: اس کے سر میں بڑھاپے کے آثار (سفید بال) ظاہر ہوئے۔

۳۔ بَلْعَمَ اللقمة: لقمہ نگلنا۔ البَلْعَم: پیٹو، بسیار خور۔ البُلْعُم و البُلْعوم: حلق۔

○ بَلَعَ ـَ و بَلِعَ ـِ بَلْعًا ه: کو نگلنا، نگل لینا، بمشکل ضبط کرنا، پی جانا، کو برداشت کرنا، گوارا کرنا۔ بَلَعَ رِيقَهُ: اپنا تھوک نگلنا، سانس لینا، تھوڑا سا آرام لینا، توقف کرنا، اپنے آپ کو روکنا، روکے رکھنا (اس شخص کا جو غصہ میں ہو)۔ بَلَّعَ و أَبْلَعَ ه ه: کو کوئی چیز نگلوانا۔ بَلَّعَ رِيقَهُ: کو تھوڑی سی مہلت (یا آرام) دینا۔ اِبْتَلَعَ بمعنی بَلِعَ۔ بَلَعَة: بڑا لقمہ، نوالہ یا گھونٹ۔ بَلاَعَة و بَلُّوعَة جمع بلاعات و بَلاَلِيع: نالی ۔ ۔ری، بہ ، بَالُوعَة جمع بالوعات و بَوَالِيع: ۔ن ۔ ۔ن ۔ بدرو، گندہ نالہ۔

○ بُلْعُم جمع بَلاعِم و بُلْعُوم جمع بَلاعِيم: منہ اور ناک کے پیچھے وہ جگہ جہاں ناک اور منہ کو جانے والے راستے گلے سے ملتے ہیں pharynx۔ بلعوم: زخرا، حلقوم، ٹیٹوا، حلق سے معدے تک کی نالی Oesophagus۔

بلغ: ۱۔ بَلَغَ ـُ بُلُوغًا الثمرُ: پھل کا پکنا۔ — الغلامُ: لڑکے کا بالغ ہونا۔ البَالِغ: بالغ۔ کہا جاتا ہے: غلام بَالِغ: بالغ لڑکا۔ جارية بالغ و بالغة: بالغ لڑکی۔

۲۔ بُلِغَ الرجُلُ: مشقت میں مبتلا ہونا، مغموم ہونا۔ بَلَغَت ـُ بُلُوغًا العِلَّةُ: بیماری کا سخت ہونا۔ کہا جاتا ہے: بَلَغَ مني كلامُكَ: تمہاری باتوں نے میرے دل پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ بَالَغَ في الأمر: کوشش و مشقت میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑنا۔ تَبَلَّغَتْ به العِلَّةُ: کی بیماری کا سخت ہو جانا۔ تَبَالَغَ فيه المَرَضُ: کی بیماری کا انتہا تک پہنچنا اور شدید ہو جانا۔ — الدبّاغ في الجلد: چمڑے رنگنے والے کا چمڑے کو خوب طرح رنگنا۔ الأَبْلَغ: جسے انتہا تک پہنچایا گیا ہو۔

۳۔ بَلُغَ ـُ بَلاغَةً: فصیح و بلیغ ہونا صفت: بليغ جمع بُلَغاء۔ تَبَالَغَ الرجُلُ في كلامه: میں بلاغت ظاہر کرنا۔ البِلْغ و البَلْغ: بليغ۔ البَلاغي و البُلاغي: فصیح و بلیغ جو دل کی بات کو اپنی عبارت آرائی سے بیان کرے۔

۴۔ بَلَغَ ـُ بُلُوغًا ه: کو پہنچنا۔ بَلَّغَ الفارسُ: سوار کا گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لئے لگام کو بڑھانا۔ — و أَبْلَغَ هُ اليه: کو کے پاس پہنچانا۔ کہا جاتا ہے: بَلَّغَ عنه الرسالةَ إلى القوم: اس نے اس کا پیغام قوم تک پہنچایا۔ البَلاغ جمع بَلاغَات: پیغام، مطلوبہ چیز تک رسائی۔ المَبْلَغ جمع مَبَالِغ: حد و انتہاء۔ البِلْغ و البَلْغ: انتہاء تک پہنچنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے: هو احمق بِلْغ: وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ هي حمقاءُ بِلْغَة: وہ انتہائی بے وقوف ہے۔ امرُ اللّٰه بَلْغٌ: اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچنے والا اور نافذ ہے۔ امر بالغ: اپنی مطلوبہ جگہ پہنچنے والا حکم۔ جيشٌ بَلْغٌ: مطلوبہ جگہ پہنچنے والا لشکر۔ البَلْغَة: انتہائی بے وقوفی۔

۵۔ تَبَلَّغَ بالشيء: پر اکتفا کرنا، قناعت کرنا۔ البَلاغ جمع بَلاغَات: کفایت۔ حدیث میں ہے: ان في هذا لبلاغًا لقوم عابدين: اس میں عبادت گذار بندوں کے لئے فرائض ادا کرنے کے کافی ہدایات ہیں۔ — و البُلْغَة و البَلاغ و التَبَلُّغ: صرف گذارے کی مقدار۔

۶۔ المَبْلَغ جمع مَبَالِغ: روپے پیسے کی مقدار۔ البَلاغ جمع بَلاغَات: کتاب جس میں مسئلہ کا حکم بیان کیا گیا ہو۔ البَلاغَات: چغل خوریاں۔ کہا جاتا ہے: لا يفلح اهل البلاغات: چغل خوریاں کرنے والے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔

۷۔ البَلْغَم: قدیم اطباء کے نزدیک چار بدنی اخلاط میں سے ایک خلط کا نام۔ (خون، بلغم، صفرا اور سوداء) بلغم۔

○ بَلَغَ ـُ بُلُوغًا ه/ ه: تک پہنچنا، کو پہنچنا، کے پاس آنا، کسی جگہ پہنچنا، کسی وزن یا مقدار کا ہونا، کا مال، کی قیمت، کی مالیت کا ہونا، کے لائق ہونا۔ — ه: کے کانوں تک آنا۔ —: بالغ ہونا، (پھل وغیرہ کا) پکنا۔ — من: کو تھکا دینا، پر اثر کرنا، کو متاثر کرنا۔ — من/في: میں دور جانا، میں اونچا درجہ حاصل کرنا۔ بَلَغَ به إلى: کو تک پہنچانا، لیجانا، کو ایسی جگہ پہنچانا جہاں۔ بلغ به الترنّح أن: وہ اس زور سے چکرانے لگا کہ...... بَلَغَ الامرُ مبلغ الجدّ: معاملہ تشویش ناک ہو گیا۔ بلغ السيلُ الزُبَى: [illegible]

پہنچا۔ بَلَغَ مَبْلَغَ الرجال: وہ جنسی طور پر سن بلوغ کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، مرد بن گیا۔ بَلَغَ اَشُدَّهُ: پوری بلوغت کی عمر کو پہنچنا، بالغ ہونا، نقطہ عروج تک پہنچنا۔ بلغ في الشيء مبلغا یا بلغ من الشيء مبلغاً: کسی چیز کا اونچا درجہ حاصل کرنا۔ حين بلغتُ بذكرياتي هذا المبلغ: جب میں اپنی یادوں میں اس مقام پر پہنچا۔ بلغ منه كُلَّ مبلغ: کو تباہ و برباد کرنا۔ بَلَغَ منتهاهُ: نقطہ عروج کو پہنچنا، فیصلہ کن حالات تک جا پہنچنا۔ بَلَّغَ ه ه: کو تک پہنچانا، کو کوئی چیز حاصل کروانا۔ — ه إلى: کو کے پاس لیجانا، لانا، دیکھنا کہ کوئی چیز کسی تک پہنچ جائے۔ — ه ه: کے پاس کوئی چیز پہنچانا، کو کوئی اطلاع دینا، کی خبر دینا، کی رپورٹ دینا، کو کے بارے میں بتانا۔ — عن: کے بارے میں رپورٹ کرنا، کی تفصیل دینا، کے خلاف اطلاع دینا، کی رپورٹ کرنا، کی مخبری کرنا۔ بَلَّغَ رسالةَ: مشن پورا کرنا۔ بَلِّغْهُ سلامي: اسے میرا اسلام دینا۔ بَالَغَ في: میں مبالغہ کرنا، مبالغہ سے کام لینا، کو زیادہ دیر تک کرنا، میں حتی الوسع کوشش کرنا۔ أَبْلَغَ ه/ ه الى: کو تک پہنچانا۔ — ه الى: کو کسی وزن یا مقدار کا کرنا۔ — ه الى: (رقم تنخواہ) تک بڑھانا۔ — ه عن/ب: کو کے بارے میں مطلع کرنا، بتانا۔ — ه: کا اعلان کرنا، کو بیان کرنا، کو ظاہر کرنا، کا افشاء کرنا۔ — عن: کے خلاف اطلاع دینا، کی رپورٹ کرنا، کی مخبری کرنا۔ أَبْلَغَ البوليسَ ب: پولیس کو کسی بات کی رپورٹ کرنا۔ تَبَلَّغَ ب: پر صابر، شاکر، قانع یا راضی ہونا، مطمئن ہونا، کے ساتھ اپنی بھوک کو تسکین دینا، کچھ کھانا۔ —: مشکل سے اپنی روزی کمانا، (خطوط وغیرہ) دیا جانا، تقسیم کیا جانا، بانٹا جانا، (کوئی چیز) بھیجا جانا، پہنچایا جانا، ارسال کیا جانا، منتقل کیا جانا۔ لا بُلْغًا: (کسی ناخوشگوار بات کے ذکر پر کہا جاتا ہے) اللہ نہ کرے کہ یہ سنی تو جائے لیکن پوری نہ کی جائے۔ بُلْغَة و بَلاغ: کفایت، کافی مقدار، مرفہ الحالی، فراغت، آسودگی، موزونیت۔ بَلاغ جمع بَلاغَات: اطلاع، مکتوب، مراسلہ، پیغام، رپورٹ، اعلان، سرکاری اعلان یا بیان، ڈھنڈورا، منادی، اشتہار، پولس کا اعلان۔ بلاغ اخير: الٹی میٹم۔ بَلِيغ جمع بُلَغاء: فصیح، بہت، بے حد، سخت شدید، گہرا، پائدار، مضبوط، مستقل، (تاثر وغیرہ) تشویشناک، سنگین (زخم وغیرہ)۔ بُلُوغ: پہنچنا، حصول، آمد (کسی جگہ پر) پختگی، بلوغ، بلوغت،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

قانونی بلوغت، بلوغت کی قانونی عمر۔ بــــلاغة: فصاحت، بلاغت، خوبصورت اسلوب کافن، فن تحریر، فن انشاء، مضمون نگاری کا فن، لکھنے کا فن، لٹریچر۔ عـلـم البلاغة: فصاحت، بلاغت معانی بیان۔ اَبْـلَـغ: زیادہ سخت، زیادہ شدید، شدیدتر، زیادہ گہرا، زیادہ پائدار، زیادہ تشویشناک، زیادہ سنگین، زیادہ سنجیدہ۔ مبـلـغ جـمـع مَـبـالِغ: مقدار، رقم، حد، دسترس، رسائی، گنجائش، حد نظر، خیال کی وسعت، دائرہ، میدان، فاصلہ۔ مبـلـغ اِسـمـی: نام کی یا برائے نام رقم، مقدار۔ المَبالِغ المُودَعَة: (بنک میں جمع کردہ) رقم، رقوم۔ لِيَتَبَيَّنَ مبـلـغ قولي مِن الـجد یہ معلوم کرنے کے لئے کہ میرے الفاظ کو کس حد تک سنجیدگی سے لیا گیا۔ تَبْلِيغ جمع تبليغات: ترسیل، ایصال، پہنچانا، انتقال، ابلاغ، (الی تک)، اطلاع (عن کے بارے میں) اعلان (عن کا) رپورٹ (عن کی): اطلاع، مکتوب، مراسلہ، اعلان، نوٹس کتاب۔ التـبـلـيـغ: کاغذات نمائندگی، مراسلہ تعارف، تصدیق نامہ credentials۔

مُبَالَغة جمع مُبالَغات: مبالغہ۔ ابلاغ: ترسیل، پہنچانا، ابلاغ، نشریہ۔ بَـالِغ: دور تک پھیلا ہوا، دور رس، کافی، شدید (زخم)، گہرا، شدید، سخت، پرجوش، بے قابو، قوی (احساس) مضبوط، سخت، شدید، بالغ، پختہ (عقل) بلوغت کی عمر، قانونی طور پر بالغ۔ مُبَلِّغ (خبر کا) حامل، پیغامبر، اطلاع دینا والے، مخبر، سراغ رساں۔

◯ بُلْغة و بُلْغَة جمع بلغات و بُلَغ: زرد چمڑے کے سلیپر۔

◯ بُـلْـغَارِيَا: ایک ملک کا نام۔ بـلـغارى: بلغاریا کا، بلغاریہ کا باشندہ، بلغاری (اسم وصفت)۔

بلغم: بلغم، ریشہ، جمع بَلاغِم: تھوک، رال بلغم جو تھوکا جائے۔ sputum۔ بَـلْـغَمِيّ: بلغمی، لعاب دار، لیس دار، چپچپا، بلغمی مزاج کا۔

بلق: ۱۔ بَـلَقَ ٭ بُـلُوقًا: جلدی کرنا۔ ــــ و ابْلَقَ الـبـابَ: دروازہ چوپٹ کھول دینا، دروازہ جلدی سے بند کردینا۔ اِنْبَلَقَ البابُ: دروازہ کھلنا۔

۲۔ بَلِقَ ٭ بَلَقًا: متحیر ہونا۔

۳۔ بَلِقَ ٭ و بَلُقَ ٭ بَـلَـقًا و أَبْلَقَ اِبْلَقَّ و اِبْلاقَ و اِبْـلَـوْلَقَ: سیاہ وسفید داغوں والا ہونا صفت: ابْـلَـق مـونث بَلْقَاء جمع بُلْق: البَلَق: سنگ مرمر۔ ــــ والبُلْقَة: سیاہی وسفیدی۔ الأَبْلَق الفَرْدُ: سموأل کا مشہور قلعہ جو سیاہ وسفید پتھروں سے بنا ہوا تھا۔

(ح): ایک ابلق پرندہ جو ملک شام میں ابی بلیق کی کنیت سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے: طـلـب الأَبـلَقَ العَقُوقَ: اس نے غیر ممکن چیز کو طلب کیا۔ کیونکہ ابلق نرکو اور عقوق حاملہ کو کہتے ہیں۔ الـمُبَلَّق: سیاہ وسفید داغوں والا۔

۴۔ البَـلَـق: بڑا خیمہ، بالوں کا بنا ہوا گھر۔ البَـلُّـوق و البَـلُّـوقَة جـمـع بلاليق: بیابان، مطلق روئیدگی نہ اگانے والا قطعہ، زمین۔

۵۔ بَـلْقَعَ المكانُ: جگہ کا ویران اور غیر آباد ہونا صفت: بَـلْـقَع۔ البَلْقَع و البَلْقَعَة جمع بلاقِع: ویران اور خالی زمین۔ دارٌ بـلـقع: ویران اور غیر آباد گھر۔ الـبَـلْقَع و المرأةُ البَلْقَع: ہر بھلائی اور خیر سے خالی عورت۔ الـبَـلْقَعِيّ: صاف۔ کہا جاتا ہے: سهمٌ اوسنانٌ بلقعيٌ: صاف پھل والا تیر یا نیزہ۔

◯ بَلَفَ - بَـلْـفًـا و بَلَّفَ: دھونس دینا، دھونس جمانا۔ بلف و بلْفَة: دھونس۔

◯ بـلق: ابْلَق: چتکبرا، چتلا۔ بِـلْقِيس: ملکہ سبا کا اسلامی نام۔

◯ البَلقان: بلقانی باشندے۔ بلقانی: ملک بلقان کا۔

◯ بُلْقُعٌ و بُلْقَعَةٌ جمع بَلاقِعُ: بنجر زمین۔

◯ بَلْكُون: بالکونی۔

◯ بَـلَـم: سمورہ (بحرابیض متوسط میں پائی جانے والی ایک قسم کی مچھلی جو اچار ڈالنے میں استعمال ہوتی ہے)۔

(۲) بَلَم جمع ابْلام: بجرا۔

بـلـم: بَـلَّـمَ الرجلَ: کی برائی بیان کرنا۔ ابْـلَـمَت شـفـتـهُ: سوجے ہوئے ہونٹ والا ہونا۔ صفت: أبْلَم۔ البَلَم (ح): چھوٹی سمندری مچھلی۔

بلن: البَلَّان (ن): دیکھئے بَلّ۔

◯ بَلَّان: حمام کا خادم، ایک پودے کا نام جو کھڑے پانی کے نزدا اگتا ہے۔ بَلَّانَة: حمام کی خادمہ، رانی، بیگم یا ملکہ کی خدمتگار عورت۔

◯ بَلَنْسِيَة: بلنسیہ (مشرقی ہسپانیہ کا علاقہ اور شہر)۔

بله: ۱۔ بَلِهَ ٭ بَلَهًا و بَلاهَةً: ضعیف العقل اور کمزور رائے والا ہونا صفت: ابْـلَـه مـؤنـث بَلْهَاء جمع بُـلْـه۔ ابْـلَـهَ الرجلَ: کو بیوقوف پانا۔ تَبَـلَّـهَ: ضعیف العقل اور کمزور رائے والا ہونا، حجت میں عاجز ہونا۔ تَبَالَهَ: دیدہ و دانستہ بیوقوف بننا۔

۲۔ بَالَهَهُ: کو فریب دینا۔

۳۔ تَـبَـلَّهَ: گمشدہ شے کا کھوج لگانا۔ ــــ الطريقَ: راہنما [illegible] کے بغیر [illegible] چلنا۔

بَلَهْنِيَةُ العيش: زندگی کی فراخی و آسودگی۔

۴۔ بَـلْـهَ: اسم فعل بمعنی: چھوڑ دے، ترک کردے، جیسے: بَلْهَ هذا الأمر: یہ کام چھوڑ دے۔

۵۔ بَلْهَسَ: تیز چلنا۔

◯ بَـلِـهَ ٭ بَـلَـهًـا: بے وقوف ہونا، سادہ مزاج ہونا۔ تَـبَالَهَ: بیوقوف بننا، بے وقوفی کا بہانہ کرنا۔ اِسْتَبْـلَهَهُ: کو بے وقوف یا سادہ لوح سمجھنا۔ بَـلَه و بَلاهَة: بے وقوفی، سادہ لوحی، ضعف عقل، دماغی کمزوری۔ بَلاهَة مُبَكِّرَة: دماغی خلل۔ بَلْهَ: اس کا تو ذکر ہی کیا، اس کو تو رہنے دو۔ ابْـلَه: بے وقوف، احمق، کند ذہن۔ بُلَهْنِيَة: فراوانی، دولت، ثروت۔

◯ بُلْهَون جمع بَلاهِين: ابوالہول۔

بلا: بَلاَ ٭ بَـلْـوًا و بَلاءً الـرجلَ: کو آزمانا، کا تجربہ کرنا، امتحان لینا۔

بلی: ۱۔ بَلِيَ ٭ بِلًى و بلاءً الثوبُ: کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ صفت: بالٍ و بَلِيّ۔ بَلَّى تَبْلِيَةً و أَبْـلَـى إبْلاءً الثوبَ: کو بوسیدہ کرنا۔ البِـلْـو و البِلْي جمع أَبْلاء: پرانا، بوسیدہ۔

۲۔ بُلِيَ الرجلُ: کا امتحان لیا جانا۔ ابْلَى اللّٰهُ عبادَه: اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مہربانی کر کے آزمانا۔ ــــ فـي الـحـرب بـلاءً حَسَنًـا: میدان جنگ میں بہادری و شجاعت ظاہر کرنا۔ تَبَـالاهُ: کو آزمانا۔ اِبْتَلاه: کی آزمائش کرنا۔ ــــ الشيء: کو پہچانا۔ اِسْتَبْلاهَ: کی آزمائش کرنا۔ البَـلْـوَى و البِلْوَة و البَـلِـيَة و البَلِيَّة جمع بَلايَا: آزمائش، مصیبت۔ البَلاء: خیر یا شر سے آزمائش، غم۔ البِـلْـو و البِلْي جمع ابْلاء: آزمودہ، تجربہ کار۔ کہا جاتا ہے: هو بِلْوُ أسفار و بِلْيُها: غم اور سفروں اور تجربات نے اُسے پرانا کردیا یعنی وہ ان سے گذر کر نہایت تجربہ کار ہوگیا ہے۔ بِـلْـوُ شـرّ و بِـلْـيُـهُ: وہ شر میں مبتلا اور غالب ہے۔

۳۔ بَالَى ہ: کی طرف نقص منصوب کرنا، سے مقابلہ پر فخر کرنا۔

۴۔ بَـالَى مُبالاةً و بلاءً و بَالَةً و بَالاً الامرَ و بالأمر: میں دلچسپی لینا، کی پرواہ کرنا۔ أبْـلَـى فـلانـاً عذرَهُ: کے سامنے عذر پیش کرنا اور اس کا اس عذر کو قبول کر لینا، ملامت دور کرنے کے لئے کسی کے عذر کی وضاحت کرنا۔

۵۔ أَبْلَى ہ يمينـاً: سے تسلی بخش قسم کھانا۔ اِبْتَلَى: قسم کھلانا۔

[illegible] العشبُ: گھاس کا دراز ہونا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۷۔ البَلِیَّۃ (ح): وہ اونٹنی جسکو ایام جاہلیت میں اس کے مالک کی قبر پر باندھ دیا کرتے تھے اور اس کو چارہ پانی کچھ نہیں دیتے تھے حتی کہ وہ وہیں مر جاتی تھی۔
المُبَلِّیات: تابوت میت کے آس پاس رونے والی عورتیں۔

۸۔ بَلَی: حرف تصدیق ہے اور نَعَمْ (ہاں) کے معنی دیتا ہے۔ اکثر استفہام کے بعد آتا ہے اور ایجابی معنی کے لئے مخصوص ہے خواہ اس سے پہلے مثبت ہو یا منفی۔ مثلاً: أقامَ زیدٌ؟ کیا زید کھڑا ہوا؟ کے جواب میں بَلَی کے معنی ہیں ہاں۔ یعنی زید کھڑا ہوا۔

۹۔ البِلْیَار: بلیرڈز billiards (ایک کھیل کا نام)۔

○ (بلو و بلی) بلا ۓ بَلْوًا و بَلاءً ہ/ہ: کو جانچنا، کا تجربہ کرنا، کی تصدیق کرنا، کا شاہد ہونا، کو آزمانا، کی آزمائش کرنا، کو طویل تجربہ کے بعد معلوم کرنا۔ ـــ ہ: کو ایذا دینا، دکھ پہنچانا، تکلیف میں ڈالنا۔ بَـلِـیَ ـَ بِلًی و بَلاءً: کپڑے کا پرانا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا، پھٹا پرانا ہونا، فرسودہ ہونا۔ ـــــ: سمٹنا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا، دفعۃً غائب ہو جانا، فضا میں تحلیل ہو جانا، ختم ہو جانا، جاتا رہنا، معدوم ہو جانا، بگڑنا، ابتر یا خراب ہونا، معیار سے گرنا، جھکنا، مائل ہونا، گرنے لگنا، ختم ہونے کے قریب ہونا، خستہ حال ہونا، زار و نزار ہونا، (لاش کا) ٹکڑے ٹکڑے ہونا یا ختم ہونا، گلنا، سڑنا، بگڑنا، خراب ہونا، برباد ہونا۔ بـالـا ہ/ ہ/ب: کی پرواہ کرنا، کا خیال رکھنا۔ ـــ ہ/ب: پر توجہ دینا، کی نگہداشت کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کو عمل میں لانا، کو حساب میں رکھنا۔ ما اُبَالِی لا اُبالِی: مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ میری حسب منشا ہے۔ لا اُبَـالِـی: لا پرواہ، بے پروا، مطمئن، غیر محتاط۔ اَبْـلَـی ہ: کی آزمائش کرنا، کو آزمانا، کو تجربہ کار بنانا، سخت اور کم زود رنج بنانا، کو عادی یا خوگر بنانا۔ ـــ ہ: کو تباہ و برباد کرنا، کو کمزور کرنا اور ناکارہ کرنا۔ ابلی بلاءً حَسَنًا: قابل بھروسہ ثابت کرنا، اپنے آپ کو (جنگ میں) بہادر ثابت کرنا۔ اِبْتَلَی ہ: کو آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، ترغیب دینا۔ ـــ ہ ب: کو کے ذریعے ایذا دینا، دکھ دینا، تکلیف پہنچانا، کو سزا دینا۔ اُبْتُلِیَ ب: سے دکھ پانا، نقصان اٹھانا، تکلیف محسوس کرنا، میں مبتلا ہونا۔ بِـلًـی: زوال، خرابی، بگاڑ، ابتری، فساد، بوسیدگی، تباہی، تنزل، سڑانڈ، گلنا، سڑنا، تحلیل، خستہ حالت، استعمال سے نقصان، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہونا۔ بَـلٍـی: پھٹا، پرانا، فرسودہ، تار تار، گھسا پٹا، پامال، خستہ حال، زار و نزار، ٹوٹا پھوٹا، شکستہ، زوال پذیر، روبہ تنزل، گرتا ہوا، گلا سڑا۔ بَـلِـیَّـۃ جـمـع بَـلایَا: آزمائش، مصیبت، رنج، دکھ، عذاب، شامتِ اعمال، رنج و الم، قہر، بپتا، بدقسمتی، بدنصیبی، آفت، تباہی، بربادی۔ بَلاءٌ: آزمائش، مصیبت، رنج، دکھ، عذاب، شامتِ اعمال، رنج و الم، قہر، بپتا، بدقسمتی، بدنصیبی، عذاب، کوڑا، تازیانہ، عذاب، وبا، طاعون، بلائے آسمانی، قابل یقین کام، بہادری، شجاعت، دلیری، ہیرو جیسا کام۔ بَلاءٌ حَسَنٌ: مہربانی، کرم فرمائی، نوازش، خدا کی رحمت، خدا کا لطف و کرم، عمدہ کام۔ بَـلْـوَی: آزمائش، مصیبت، رنج، دکھ، عذاب، بدقسمتی، بدنصیبی، آفت، تباہی، بربادی، ضرورت، اشد ضرورت، احتیاج۔ عَـمَّـتْ البَلْوَی بـہ: یہ ایک عام ضرورت بن چکی ہے۔ مُـبَـالاۃ: توجہ، لحاظ، پاس۔ لامُبَـالاۃ: بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی، غفلت۔ اِبتـلاء: آزمائش، مصیبت، رنج، دکھ تکلیف، ایذا، عذاب، شامتِ اعمال۔ بَـالٍ: پرانا، پھٹا ہوا، گھسا پٹا، پھٹا پرانا، فرسودہ، تار تار، پامال، شکستہ حال، ناہموار، خستہ حال، زار و نزار، ٹوٹا ہوا، ٹوٹا پھوٹا، شکستہ، گلا سڑا، متروک، غیر مروجہ، کہنہ۔ مُـبَـالٍ ب: کا پابند، کی طرف توجہ کرنے والا۔ غیـر مُـبَـالٍ ب: کی طرف توجہ نہ کرنے والا۔ مُـبْـتَـلًـی مُبْتَلٍ بھی کہا جاتا ہے مگر یہ کم صحیح ہے) ب: سے ایذا دیا گیا، میں مبتلا۔

○ بـلـور: تَبَلْوَرَ: قلم بنا، بلور بننا، بلوروں سے ڈھکا ہونا۔ بَـلُّـور و بِـلَّـور جمع بلوّرات: بلور، قلم، صاف شفاف شیشہ، شیشہ، چقماق شیشہ۔ بـلـور صـخـری: شفاف صوان۔ بِـلَّـوْرَۃ جـمـع بـلـورات: قلم، بلور، صاف شفاف شیشہ، چقماق شیشہ، شیشہ، ٹیوب (ریڈیو)، بلور، ڈٹیکٹر (ریڈیو) کی صوانی پلیٹ۔ بَلُّوْرَۃ (شام میں) نیگیٹو (فوٹو)۔ بِلَّـوْرِي و بِلَّـوْرِي: بلور کا، بلورین (صفت)۔ بِلَّوْرِیَۃ و بِلَّوْرِیَۃ جمـع بلـوریـات: لینس lense، دوربین، خوردبین یا عینک کا شیشہ، عدسہ۔ فواکِـہُ مُبَـلْـوَرَۃ: چینی کے قوام میں رکھے ہوئے پھل۔

○ بَلُوزَۃ، بَلُوز جمع بلوزات: بلاؤز، چھوٹی قمیض، صدری۔

○ بُلُوك جمع بلوکات: کمپنی (فوج کی)۔ بُلُوك امین: کوارٹر ماسٹر Quartermaster۔ سارجنٹ sargeant۔

○ بَلُّون: غبارہ، بیلون balloon۔

○ بَلَی: ہاں، ہاں بیشک، یقیناً۔

○ بَلْیَاتْشُو: مسخرہ، بھانڈ، نقال۔

○ بِلْیَارْدُو: بلیرڈز billiards۔

○ بَلْیِسَۃ: چنٹ ڈالنا، چنٹ۔

○ بَلِّین جمع بَلالِین۔ پادری کا جبہ۔

○ بَلْیُون جمع بَلایِین: دس کھرب۔

بـمّ: البَـمّ جمع بُمُوم (مو): بربط کا موٹا تار یا اس کی موٹی آواز۔

○ بُمْبَاغ و بُمباغۃ: بو (bowtie)

○ بَمبای: بمبئی (ہندوستان کا ایک مشہور شہر)۔

بن: ۱۔ بَنَّ ـ بَـنًّـا بـالمكان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ اَبَـنَّ بـالمكـان: کسی جگہ میں اقامت پذیر ہونا۔ ـ ت السحابۃُ: ابر کا کئی روز رہنا۔

۲۔ بَـنَّـنَ الشـاۃَ: بکری کو موٹا کرنے کے لئے باندھنا۔ البَنِین: موٹا۔

۳۔ تَبَـنَّـنَ في الأمر: پر توجہ سے غور کرنا، کو آہستہ آہستہ کرنا۔ البَنِین: دور اندیش، عاقل۔

۴۔ البُنّ (ن): ایک درخت جس کے دانوں سے قہوہ بنایا جاتا ہے۔ البـنّ مـن الأمـكـنـۃ: بدبودار جگہ۔ البَنَّۃ: بو (اچھی یا بری)۔ البَـنَـان: انگلیوں کے پورے، انگلیاں۔ البَنَانۃ جمع بَنَانَات: بنان کا واحد، انگلی، انگلی کا اوپر کا حصہ۔ البُـنَـانَۃ: سرسبز و شاداب باغ۔

○ بن: تَبَنَّی ہ: کو بیٹا بنانا۔ ـ ہ: کو اختیار کرنا، قبول کرنا۔

بنت: ۱۔ بَنَّتَ عَنْہُ: کے متعلق دریافت کرنا۔ ـــ ہ بکذا: کو کسی چیز سے خاموش کر دینا۔

۲۔ البنتو غراف (حی): تصاویر وغیرہ کو مکینکی طور پر منتقل کرنے والا آلہ۔

○ بِنْتُو: نپولین (۲۰ فرانک کا سونے کا سکہ)

بنج: ۱۔ بَنَجَ ـ بَنْجًا: اصل کی طرف لوٹنا۔ البِنج اصل، جڑ۔

۲۔ بَـنَّـجَ ہ: کو بھنگ پلا کر سلا دینا۔ البَـنْـج (ن): بھنگ۔

۳۔ البَنْجَرۃ جمع بَنَاجِر (ا ع): توپ کا دہانہ (ترکی لفظ)۔

۴۔ البَنْجَكِشْت (ن): لونگ (فارسی لفظ)۔

○ بَنَّجَ ہ: کو بھنگ پلا کر بے حس کرنا، سن کرنا، پر غنودگی طاری کرنا۔

○ البنجاب: پنجاب۔ پاکستان کا ایک صوبہ (ہندوستان میں اس کا شرقی حصہ ہے)۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ بَنْجَر: سرخ چقندر۔

بند: ١- البَنْد جمع بُنُود: بڑا جھنڈا، جھیل، کتاب کی فصل یا اس کا فقرہ، قید، حیلہ۔ کہا جاتا ہے: فلان کثیرُ البُنُود: فلاں شخص بڑا حیلہ ساز ہے (فارسی لفظ)۔

٢- البندر جمع بنادر: بندرگاہ، ساحلی شہر، لنگرگاہ، تاجروں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ الشاہ بندر: بڑا تاجر۔

٣- البَنْدِير (د): بڑا ڈھول۔

٤- بَنَادُورَة (ن): دیکھو طماطم۔

٥- البَنْدَيرَة: جھنڈا (اٹلی زبان کا لفظ)۔

٦- بَنْدَقَ اليه: کی طرف تیز نظر سے دیکھنا۔ البُندق: واحد بندقة (ن): ایک درخت کا نام، بندوق کی گولی۔ البُنْدُقِيَّة (اع): بارود۔ البندقية الرشاشة: بندوق، رائفل، مشین گن۔ البندقية المؤاتِرة: ایک دفعہ بھرنے سے کئی فائر کرنے والی بندوق۔

○ بَنْد جمع بُنُود: (قانون، ٹھیکہ وغیرہ کی) دفعہ، شق، فقرہ، عبارت کا ایک ٹکڑا، جھنڈا، فوجی دستہ کا ایک بڑا گروہ۔

○ بَنْدَر جمع بنادِر: بندرگاہ، تجارتی مرکز، ضلع کا صدر مقام، بندرعباس (جنوبی ایران کی بندرگاہ)۔

○ بُنْدُق (واحد بُنْدُقَة جمع بنادق: ایک جھاڑی (ہیزل) کا گری دار میوہ، ہیزل hazel، ہیزل کا درخت۔ بُنْدُقَة: ایک جھاڑی کا گری دار میوہ، گولی۔ bullet۔ بُنْدُقی: وینس شہر کی چمکدار ٹکیا جو کپڑوں پر سلائی کی جاتی ہے۔ بُنْدُقية جمع بنادِق: رائفل، گن gun۔ بندقية رشّ: شاٹ گن shot gun۔ البُنْدُقِية: وینس (ایک شہر کا نام)۔ بُنْدُقانی جمع بندقانیون وَ بنادِقة: وینس شہر کا باشندہ۔ بُنْدُوق جمع بَنَادیق: حرامی، حرام زادہ، ناجائز اولاد، ولدالزنا۔

○ بَنْدَورَة: ٹماٹر (جمع)۔ احمر بَنْدَوِری: سرخ ٹماٹر۔

○ بَنْدُول: پنڈولم Pendulum۔

○ بَنْدِيرَة جمع بنادِر: جھنڈا، لمبی تکونی جھنڈی، پرچم، پھریرا، مطالبے والا جھنڈا۔

○ بَنُّور = بَلُّور: شیشہ۔

○ بنزَهِير: زہرمہرہ، bezoar stone bezoar

○ بَنْزِين: بنزین، گیسولین gasoline، پٹرول۔

[illegible]

○ بنسلین: پنسلین penicillin۔

○ بَنْسِيه: پنتری، بن سکھ (ایک پھولدار پودا)۔

○ بَنْسِيَون جمع بنسیونات: بورڈنگ ہاؤس، بورڈنگ سکول۔

بنز: البِنْزِين: پٹرول، بنزین۔

بنس: ١- بَنِسَ - بَنَسًا و أَبْنَسَ: شر اور برائی سے بھاگنا۔ بَنَّسَ عنه: کسی سے پیچھے ہونا۔

٢- بنسلین (طب): داخلی اور خارجی التہابات کی دواء پنسلین (penicillin)۔

بنص: البِنْصِر ج بَناصِر (ع ا) مونث: چھنگلیا اور بیچ کی انگلی کے درمیان والی انگلی۔ ring finger۔

بنط: بنطلون: پتلون، عربی میں سراویل بھی کہتے ہیں۔

○ بُنْط جمع بُنُوط: پیمائش یا قیمت کا یونٹ (شاک مارکیٹ میں)۔

○ بَنْغازِی: شمال مشرقی لیبیا کے ایک شہر کا نام۔

○ البَنْغَال: بنگال (شمال مشرقی برصغیر کے ایک علاقہ کا نام)۔

بنف: البَنَفْسَج، واحد البَنَفْسَجَة (ن): بنفشہ۔

○ بَنَفْسَجِی: بنفشہ جیسا، بنفشی رنگ کا، بنفشہ کا۔ فوق البنفسجی یا وراء البنفسجی: ماورائے بنفشی، بالائے بنفشی، بنفشی شعاعوں سے باہر کا۔

○ بَنْفَش۔ بَنَفْش: ارغوانی یا بنفشی رنگ کا قیمتی پتھر، یاقوتِ ارغوانی۔

بنق: بَنَقَ - بَنْقًا و ابْنَقَ اليه: کے پاس یا کسی تک پہنچنا۔ بَنَّقَ بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ ـ الکلامَ: کلام کو جمع کرنا، ٹھیک اور درست کرنا۔ ـ الکذبَ: جھوٹ گھڑنا، جھوٹ کو پسندیدہ بنانا اور مزین بنانا۔ ـ الشیءَ: کسی چیز کا قلادہ ڈالنا۔ ـ ظهرَهُ بالسوط: پیٹھ کو کوڑے سے زخمی کرنا۔ ـ القمیصَ: قمیض میں گریباں لگانا، قمیض کا گلا بنانا۔ ـ الیه: تک پہنچنا۔ البَنِيقَة و البَنَقَة: گریبان۔ مُبَنَّق: طریقٌ مُبَنَّق: کشادہ راستہ۔

○ بَنَقَة و بَنِيقَة: فالتو کپڑا جو لباس کو مضبوط بنانے کے لئے لگائیں۔

بنك: ١- بَنَّكَتِ الجاریتان: دو لڑکیوں کا اپنے اپنے محلّے سے نکل کر ایک دوسرے کو اپنے گھر والوں کی خبریں سنانا۔

٢- تَبَنَّكَ بالمکان و فیه: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـ فی عزّةٍ: اپنی عزت میں مضبوط ہونا۔

٣- [illegible]

کہا جاتا ہے: مَضَى بُنْكٌ من اللیل: رات کی ایک گھڑی گذر گئی۔

٤- بنکریاس او لوزة المَعِدَة (ع ا): معدے کے پیچھے کی ایک بڑی گلٹی (غدة) جو ممد حیات جوہر کی رطوبت خارج کرتی ہے۔

○ بُنْك: جڑ، گودا، مغز، دل، بہترین حصہ۔ بُنْك العمر: عمر کے بہترین سال، عنفوانِ شباب۔

○ بَنك التسلیف: قرض دینے والا بنک۔ بنك التوفیر: رقم جمع کرنے کا بنک۔ بنك الدم: وہ جگہ جہاں ہسپتالوں وغیرہ کو فراہم کرنے کے لئے خون رکھا جاتا ہے۔ بلڈ بنک blood bank۔ البنك الدَولی: عالمی بنک world bank۔ مُبَنَّك: یکا وتنہا، بے یار ومددگار۔ مُحَنَّك مُبَنَّك: زیرک، سمجھ دار، ہوش مند، عیار، مکار، کایاں، چالاک، ہوشیار، سیانا، دانا، تیز فہم۔

○ بَنْكَنوت: بینک نوٹ banknote۔

بنی: ١- بَنَى - بَنْيًا و بِنَاءً و بُنْيَانًا و بُنْيَةً و بِنايَةً البیتَ: گھر تعمیر کرنا۔ ـ الارضَ: زمین کو گھروں سے آباد کرنا۔ بَنَّاهُ تَبْنِيَةً: کو بنانا، تشدید کثرت کیلئے ہے۔ أَبْنَاهُ: کو مکان دینا یا سامان تعمیر عطا کرنا، سے مکان بنوانا۔ بَانَاهُ: کا تعمیر میں مقابلہ کرنا۔ تَبَنَّى الرجلُ: بنے ہوئے گھر کے مانند ہونا۔ کہا جاتا ہے: اذا جلستْ تَبَنَّتْ: جب وہ بیٹھتی ہے تو گھر کے مانند معلوم ہوتی ہے۔ اِبْتَنَى بیتاً: گھر بنانا۔ اِسْتَبْنَى المنزلُ: مکان کا منہدم ہو جانا اور تعمیر کا طالب ہونا۔ البناء جمع ابْنِيَة و جمع الجمع ابیات: مکان، عمارت، گھر۔ کہا جاتا ہے: بِنَاءً علیه: اس بنا پر، بنابریں اس وجہ سے: نصب مفعول له ہونے کیوجہ سے ہے۔ البانی (ج) بُناة مونث بانِیة جمع بَوَانٍ: بنانے والا، بانی۔ کہا جاتا ہے: بنی البیت علی بَوَانِیه: اس نے گھر کو اس کی بنیادوں پر اٹھایا۔ حائط علی بانیتین: دو بنیادوں پر بنی ہوئی دیوار۔ البُنْيَة جمع بُنًى و بِنًى: ڈھانچہ۔ البِنْيَة جمع بُنًى و بِنًى: ڈھانچہ، جسم کی ساخت، فطرت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ صحیح البنیة: فلاں شخص صحیح الجسم ہے۔ البنایة: بنی کا ایک مصدر، بڑا گھر، بڑی عمارت جس کی کئی منزلیں اور طبقے ہوں۔ البُنْيَان (مص): عمارت۔ کہا جاتا ہے: کَأَنَّهُمُ البنیان المرصوص: گویا وہ لوگ ایک مضبوط عمارت (کے مانند) ہیں۔ البَنَّاء جمع بَنَّاؤون: معمار۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

marfat.com

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المَبَانِي: عمارتیں۔

۲۔ بَنَی - الرجلَ: سے بہتر سلوک کرنا۔ اِبتَنَی الرجلَ: سے بہتر سلوک کرنا، پر احسان کرنا۔

۳۔ بَنَی - الطعامُ بدنهُ: کھانے کا بدن کو فربہ کرنا۔

۴۔ بَنَی - علی کلامِهِ: کے کلام کی نقل کرنا۔

۵۔ بَنَی - علی أهلِهِ و بأهْلِهِ ای عروسِهِ: پہلی رات بیوی کے پاس جانا۔ اِبْتَنَی علی اهله و بها ای عروسه: پہلی رات شوہر/ بیوی کے پاس جانا۔ اِسْتَبْنَی الرجلُ: دلہن لانا، شادی کرنا۔

۶۔ بَنَی۔ الکلمةَ: کلمہ کو مبنی بنانا، لفظ کو اس کا صیغہ دینا۔ البِنیَةُ فی الکلمة: لفظ کا صیغہ اور مادہ جس سے اسے بنایا جائے جیسے مضارع سے امر کا صیغہ بنانا۔ حروف المبانی: حروف تہجی۔

۷۔ تَبَنَّی ہ: کو بیٹا بنانا، کو متبنیٰ بنانا۔ اِبْتَنَی الرجلُ: بیٹوں والا ہونا۔ الابن جمع بُنُون و ابْنَاء مونث اِبْنَة: بیٹا۔ تصغیر: بُنَیَّ نسبت: اِبنِیّ اور بَنَوِیّ ابنُ بَطنِهِ: اپنے پیٹ کی فکر میں ہی رہنے والا۔ ابن جلا: مشہور آدمی۔ ابن ذُکَاء: صبح۔ ابن السبیل: مسافر۔ ابن الطود: صدائے بازگشت۔ ابن لیلِها: بڑے کام والا۔ ابن یومِہ: وہ شخص جو صرف آج ہی کی سوچے، کل کی نہیں۔ البُنُوَّة: فرزندی، بیٹا ہونا۔ الابْنُم: بیٹا، میم زائد ہے مبالغہ کے لئے۔ اعراب میں نون میم کے تابع رہتا ہے۔ البِنْت جمع بَنَات: بیٹی نسبت: بِنتِیّ و بَنَوِی۔ بنتُ الارض: کنکری۔ ـــ الشفة: کلمہ، لفظ۔ ـــ العنقود او الکرم: شراب۔ ـــ العین: آنسو۔ ـــ الیمن: قہوہ۔ بناتُ الارض: چھوٹے دریا، چھوٹی ندیاں۔ ـــ اللیل و بنات الصدر: افکار۔

۸۔ بِنت جمع بنات القنصل (ن): ایک قسم کی نباتات، اسکی ٹہنیوں پر لمبے پتے لگتے ہیں، گرم آب و ہوا یا بحر ابیض متوسط میں اگائی جاتی ہیں۔ ان کا اصل وطن میکسیکو ہے۔ ـــ وَرْدَان اَوصرصُور (ح): حشرات الارض کی ایک قسم۔ بناتُ نعش الکُبرٰی (فلک): وہ سات ستارے جو قطب شمالی کے پاس دکھائی دیتے ہیں اور اسی طرح بنات نعش الصغریٰ بھی۔ النجمة القطبیة قطب ستارہ۔

۹۔ البِنَایة: شرف۔ البِنیَة (ف ج): فریم (تصویر کا)۔ البوانی (ع ا): سینہ کی پسلیاں، اونٹنی کی ٹانگیں۔ بُنَیَّات الطریق: بڑی سڑک سے نکلنے والے چھوٹے راستے۔ دَعْ بنیات الطریق: بڑے کام کو سنبھالو اور مکر و فریب کو چھوڑو۔

○ بَنَی - بِنَاءً و بُنیَانًا و اِبْتَنَی ہ: کو بنانا، تعمیر کرنا، کھڑا کرنا، نصب کرنا۔ ـــ ہ علی: کو پر بنانا، کو مستقبل بنیادوں پر استوار کرنا، قائم کرنا، پر ٹیک لگانا، کو پر مبنی کرنا۔ ـــ بها یا علیها: عورت سے خلوت صحیحہ کرنا۔ بُنِیَ علی: پر مبنی ہونا، پر بنا ہوا ہونا، پر ٹیک لگانا۔ بَنَی کلمةً علی: لفظ کو مبنی بنانا۔ تَبَنَّی ہ: کو بیٹا بنانا، کو متبنیٰ بنانا۔ ـــ ہ: کو اختیار کرنا، قبول کرنا۔ بِنَاء: عمارت، تعمیر، تنصیب، ڈھانچہ، ڈھانچ، بناوٹ ساخت، نظام، انتظام، بندوبست۔ جمع ابْنِیَة: عمارت ڈھانچہ، ڈھانچ، شاندار عمارت۔ اعادَةُ البِناء: دوبارہ تعمیر۔ البِناءُ الحُرّ: فری میسن نظام free masonry۔ بِناءً علی: کے مطابق، کی بنیاد پر، کی بنا پر، کی وجہ سے، کے باعث، کی سند سے۔ بناءً علی هذا: اس لئے، چنانچہ، لہذا، بدیں وجہ، اس طرح، یوں۔ اس حد تک، اتنا۔ بِنَائِی: تعمیری، ترکیبی، تعبیری، تفسیری، عمارت کا، عمارتی، ساخت یا بناوٹ کے متعلق۔ بِنیَة و بُنیَة جمع بِنًی و بُنًی: تعمیر، ساخت، بناوٹ، نظام، انتظام، بندوبست۔ بِنیة: وضع، بناوٹ، ساخت، انسان کی کاٹھی، چوکٹھا، مزاج یا ذہن کی حالت، ڈھانچہ، تصویر کا چوکٹھا یا خانہ، جسمانی ساخت، جسم، طبعی یا فطرتی ساخت، سیرت، بناوٹ یا خصلت۔ ضعیف البِنیة: نازک ساخت کا۔ صحیح البنیة: صحت مند ساخت کا، مضبوط اور درست جسم والا، صحیح کاٹھی کا، صحت مند۔ سلیم البِنیَةِ: صحت مند، صحت مند و مضبوط اور درست جسم اور کاٹھی والا۔ قَوِیُّ البِنیَة: ہٹا کٹا، قوی ہیکل۔ بَنَّاء جمع بَنَّاؤون: بنانے والا، تعمیر کنندہ، معمار، تعمیری۔ بَنَّاحُرّ: فری میسن (freemason)۔ بِنَایَة جمع بِنایات: عمارت، تعمیر، شاندار عمارت۔ بُنیَان: عمارت، تعمیر، تنصیب، شاندار عمارت، جسم کی ساخت، جسم، قد و قامت۔ مَبْنیٰ: عمارت، تعمیر، تنصیب، ساخت، بناوٹ، شاندار عمارت، شکل، بنیاد۔ الرأیُ و المَبْنَی: مضمون اور شکل۔ بَانٍ: بنانے والا، تعمیر کرنے والا۔ مَبْنِی: بنا ہوا، نصب کیا ہوا، تعمیر کیا ہوا۔ ـــ علی: پر استوار شدہ، پر مبنی، پر ٹیک لگایا ہوا۔ ـــ: مقررہ، قائم شدہ، نا قابل گردان، غیر صرفی۔

○ بنیو: حمام، ٹب (نہانے کا)۔

بہا: بَهَأَ ـ و بَهِئَ ـ و بَهُؤَ ـ بَهْأً و بَهاءً و بُهُوءًا ... له: میں اس کو نہیں سمجھا۔ ـــ و اِبْتَهَأَ به: سے مانوس ہونا۔ بَهَأَ ـ بَهْأً و أَبْهَأَ البیتَ: گھر کو سامان سے خالی کرنا۔

بہت: ۱۔ بَهَتَ ـ بَهْتًا ہ: کو اچانک پکڑ لینا۔ بَهِتَ ـ و بَهُتَ ـ و بُهِتَ بَهْتًا و بَهَتًا: ہکا بکا رہ جانا، حیرانی سے خاموش اور دم بخود ہونا۔ بَهَّتَ و بَاهَتَ ہُ: کسی پر جھوٹ بول کر ہکا بکا کر دینا۔ البَهُوت جمع بُهُت: جھوٹ بول کر سامع کو حیران و ششدر کرنے والا۔ البَهِیتَة: حیرانی۔

۲۔ بَهَتَ ـ بَهْتًا و بُهْتَانًا ہ: پر بہتان لگانا، تہمت لگانا صفت: بَهَّات و بَهُوت جمع بُهُت۔ بَاهَتَ الرجُلُ: بہتان لگانا۔ البَهِیتَة و البُهْت و البُهتان: جھوٹ، بہتان۔

○ بَهِتَ ـ وبَهُتَ ـ و بُهِتَ بَهْتًا: حیران ہونا، ششدر ہونا، حیرت میں پڑ جانا، متعجب ہونا، متحیر ہونا، حواس باختہ ہو جانا، چونکنا، گھبرا جانا، الجھ جانا، شبہ یا پریشانی میں پڑ جانا، گومگو میں مبتلا ہو جانا، شش و پنج میں پڑ جانا، بے زبان یا گونگا ہو جانا۔ بَهَتَ ـ ہ: کو حیران و ششدر کرنا، حیرت میں ڈال دینا، متحیر کرنا، حواس باختہ کرنا، چونکا دینا، گومگو میں مبتلا کرنا، شش و پنج میں ڈالنا، چکرا دینا، بدحواس کر دینا۔ ـــ بُهتانًا ہُ: کو بدنام کرنا، پر تہمت لگانا، کے نام کو بٹہ لگانا، پر عیب لگانا، کو رسوا کرنا۔ بَاهَتَ ہ: پر اچانک آ جانا، نازل ہونا، کو چونکا دینا، پریشان کرنا، چکرا دینا، بدحواس کر دینا، کو گومگو میں رکھنا، شش و پنج میں ڈالنا، حیران و ششدر کرنا۔ أَبْهَتَ ہ: کو یکا یک آ لینا، یکا یک آ کر گھبرا دینا، ششدر کرنا، حیرت میں ڈالنا، حیران کرنا، متعجب کرنا، متحیر کرنا، حیران کرنا۔ اِنْبَهَتَ: بمعنی بَهِتَ و بَهُتَ و بُهِتَ۔ بُهْت و بُهْتَان: جھوٹ، جھوٹا الزام، تہمت۔ بَهْتَة: تعجب، حیرت، اچنبھا، تحیر، پراگندگی، بوکھلاہٹ، پریشانی، گھبراہٹ، حیرانی، بدحواسی، بے ہوشی، مدہوشی۔ بَاهِت: پیلا، ہلکا زرد، دھندلا، زرد، بے رونق، ماند پڑا ہوا، مرجھایا ہوا، ماند، پھیکا، اڑا ہوا (رنگ)، حیران و پریشان، متحیر، الجھن میں مبتلا، شبہ یا پریشانی میں پڑا ہوا، ششدر، ہکا بکا، سہما ہوا، خوف زدہ۔ مَبْهُوت: حیران و پریشان، الجھن، شبہ یا پریشانی میں مبتلا، ششدر، ہکا بکا، سہما ہوا، خوف زدہ، گومگو کی حالت میں، شش و پنج میں مبتلا سراسیمہ۔

بہج: ۱۔ بَهَجَ ـ بَهْجًا و أَبْهَجَ ہُ: کو خوش کرنا، مسرور کرنا۔ بَهِجَ ـ بَهَجًا به: پر خوش و مسرور ہونا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

صفت: بَهِج و بَهِيج۔ اِبْتَهَجَ و تَبَهَّجَ و تَبَاهَجَ و اِسْتَبْهَجَ بِه: پر یا سے خوش ہونا، مسرور ہونا۔ البَهْجَة: سرور، خوشی، خوشی کا ظہور۔ البَهِج: مسرور، خوش۔

۲۔ بَهُجَ ـ بَهَاجَةً و بَهَجاناً: خوبصورت ہونا صفت: بَهِيج مونث مِبْهَاج۔ بَهَّجَ ہٗ: کو خوبصورت بنایا۔ بَهَّجَ اللّٰهُ وَجْهَهُ: اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ خوبصورت بنایا۔ بَاهَجَ ہٗ: کا خوبصورتی میں مقابلہ کرنا اور فخر کرنا۔ أَبْهَجَ و تَبَاهَجَ المكانُ: جگہ کا سرسبز و شاداب ہونا۔ تَبَهَّجَ: خوبصورت ہونا۔ البُهْجَة: خوبصورتی، سرسبزی و شادابی، تر و تازگی۔

○ بَهِجَ ـ ب: کے بارے میں خوش ہونا، پر خوش و مسرور ہونا، سے محظوظ ہونا۔ بَهُجَ ـ: خوبصورت ہونا، حیرت انگیز دکھائی دینا۔ أَبْهَجَ ہٗ: کو خوش کرنا۔ اِبْتَهَجَ ب: کے بارے میں خوش ہونا، سے محظوظ ہونا۔ بَهْجَة: شان و شوکت، چمک دمک، آب و تاب، خوبصورتی، حسن، جمال، کروفر، رونق اور شان، خوشی، مسرت، سرور، شاندار درخشانی۔ بَهْجَةُ الأَنظار: آنکھوں کی فرحت خوشگوار منظر یا نظارہ۔ بَهِيج و بَهِج: پرشکوہ، شاندار، خوبصورت، خوش، مسرور، شاداں، راحت بخش، مسرت بخش۔ مَبَاهِج: خوشیاں، مسرتیں، تفریحات، شاندار چیزیں، شان و شوکت، شان و شکوہ، چمک دمک، آب و تاب۔ کروفر، رونق اور شان۔ مَبْهَجَة: خوشی کا لمحہ۔ مُبْهِج: خوشگوار، دلکش، دل فریب، دل ربا، پسندیدہ مرغوب، راحت بخش، مسرت بخش۔ مُبْتَهِج: خوش، مسرور۔

بھر: ا۔ بَهَرَ ـ بَهْراً ہٗ: پر غالب آنا، فضیلت میں سبقت لیجانا۔ ـــ الرجُلُ: اپنے ہم عمروں پر فوقیت لیجانا۔ ـــ القمرُ: چاند کی روشنی کا ستاروں کی روشنی پر غالب آنا۔ ـت فلانةُ النساءَ بَهْراً و بُهُوراً: عورتوں پر حسن میں غالب آنا۔ بَاهَرَہٗ مُبَاهَرَةً و بِهَاراً: کا فخر میں مقابلہ کرنا۔ أَبْهَرَ: عجیب کام کرنا۔ البَهَار: خوبصورتی، حسن جمال۔

۲۔ بَهَرَتِ ـ بَهْراً و بُهُوراً الشمسُ: سورج کا روشن ہونا۔ تَبَهَّرَتِ السحابةُ: بادل کا چمکنا۔

۳۔ بَهَرَ ـ بَهْراً فلاناً: پر بہتان لگانا۔ أَبْهَرَ: متلون الاخلاق ہونا۔ اِبْتَهَرَ: کوئی کام کرنے کا جھوٹا دعوی کرنا۔ ـہٗ: پر سچا عیب لگانا۔

۴۔ بَهَرَ ـ بَهْراً فلاناً: کو ہنپا دینا۔ بُهِرَ و اِنْبَهَرَ: سخت دوڑ کے باعث ہانپنے لگنا۔ صفت: بَهِير و مَبْهُور۔ اِنْبَهَرَ: کسی بات کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ اِبْتَهَرَ: پوری پوری کوشش کرنا۔ البُهر: ہانپنا۔ کہا جاتا ہے: بُهْراً لَهٗ: اس کے لئے ہلاکت ہو۔ البَهِيرَة جمع بَهَائِر: موٹے سرین والی شریف عورت جو چلنے میں تھک جائے اور ہانپنے لگے۔

۵۔ ابْهَرَ: مفلسی کے بعد غنی ہو جانا۔ تَبَهَّرَ الإناءُ: برتن کا بھر جانا۔

۶۔ ابْهَرَ: گرمی میں داخل ہونا۔ اِبْتَهَرَ السيفُ: تلوار کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ اِبْهَارَّ الليلُ او النهارُ: رات یا دن کا آدھا ہونا۔ البُهْرَة من المكان و الزمان: جگہ کا اور زمانہ کا وسط۔

۷۔ اِبْهَارَّ علينا الليلُ: (ہم پر) رات کا دراز ہونا۔ ـ و اِسْتَبْهَرَ الليلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔

۸۔ البَهَار (ن): ایک خوشبودار پودا جس کو عَيْنُ البقر یا بَهَارُ البرّ بھی کہتے ہیں۔ البُهار: بت، ابابیل، دھنی ہوئی روئی سفید مچھلی۔ الأَبْهَر: پیٹھ۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ شديد الأَبْهر: فلاں شخص مضبوط پیٹھ والا ہے)۔ گردن کی شہ رگ۔ ذو أَبْهَرِيه: پیٹ والا۔ الأَبْهَران (ع ا): دل سے نکلنے والی دو رگیں جن سے شرائین شاخ در شاخ ہوگئی ہیں۔ ما زال يراجعه الالم حتى قطع ابهرَہ: اسے تکلیف ہوتی رہی یہاں تک کہ تکلیف نے اس کو ہلاک کر ڈالا۔ البَاهِرَة (ن): خاردار پتوں والا ایک پودا جو ایک دوسرے سے لپٹ کر سایہ پیدا کرتے ہیں، آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے، ساری عمر میں ایک بار پھول لگتے ہیں۔

○ بَهْدَلَ ہٗ: کی توہین کرنا، سے کمینے پن کا اور حقارت آمیز سلوک کرنا، کو بے نقاب کرنا، کا مذاق اڑانا، کو اضحوکہ بنانا۔ تَبَهْدَل: توہین کیا جانا، حقارت آمیز سلوک کیا جانا، بے نقاب ہونا، اضحوکہ بننا۔ بَهْدَلَة: توہین، گالی، انتہائی ظلم، شرمناک بے عزتی، کمینگی، فرسودگی، عامیانہ پن، بے مزگی، بے کیفی۔ مُبَهْدَل: جس پر ظلم کیا گیا ہو، مصیبت زدہ، جس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہو۔

○ بَهَرَ ـ بَهْراً و أَبْهَرَ: چمکنا، دمکنا۔ ـــ ہ/ ہٗ: کو چندھیانا، خیرہ کرنا، چندھیا دینا، گھیرے میں لے لینا۔ شيءٌ يبهر الأبصار: خیرہ کن، چندھیا دینے والی چیز، نا قابل برداشت چیز۔ بُهِرَ: ہانپنا، سانس پھولی ہوئی ہونا۔ اِنْبَهَر: چندھیا جانا، اندھا ہو جانا، اندھے پن کا شکار ہونا، سانس پھول جانا۔ اِبْتَهَرَ: کو اپنا ... فخر سے دکھانا، کی نمود و نمائش کرنا، شان دکھاتے پھرنا، کو نمایاں کرنا، کو خیرہ کن روشنی میں پیش کرنا۔ بَهْر ب: سے فریب خوردگی، خیرگی۔ بُهْر: مشکل سے سانس لینا۔ بَهْرَة: چندھیا جانا، خیرہ ہو جانا، خیرگی۔ بُهْرَة: وسط، درمیان۔ في بُهْرَةِ ـــ: کے درمیان، کے دوران میں۔ ابْهَر: زیادہ چمکدار، زیادہ شاندار، زیادہ پرشکوہ۔ ابْهَر: رگ جان، شہ رگ۔ بَهَار جمع بَهَارات: گرم سالہ۔ اِبْتِهار ب: کا خیرہ کن مظاہرہ یا نمائش۔ بَاهِر: خیرہ کن، شاندار، چمکدار۔ مَبْهُور: ہانپتا ہوا، پھولی سانس والا۔

بھرج: ا۔ بَهْرَجَ الدماءَ: حق خون باطل کرنا، خون مباح کرنا۔ ـــ المكانَ: کو رفاہ عام کے لئے رکھنا۔ مَكَانٌ بَهْرَجٌ: رفاہِ عام کی جگہ، وقف کی جگہ۔ تَبَهْرَج المكانُ: چراگاہ کا رفاہ عام کے لئے ہونا۔

۲۔ بَهْرَجَ بهم الدليلُ: راہ نما کا لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے لیجانا۔ البَهْرَج: باطل، ردی۔ (لؤلؤ بَهْرَجٌ: ردی موتی): کھوٹا درہم۔

۳۔ تَبَهْرَجَت المرأةُ: عورت کا بناؤ سنگار کرنا۔ ـــ: تکبر کرنا۔

○ بَهْرَجَ بَهْرَجَةً: سجانا، آرائش کرنا، آراستہ کرنا، سج دھج کرنا، سنوارنا، مرصع کرنا۔ ـ ہٗ: کو دھوکے میں ڈالنے والی چمک دینا، کو نظر فریب بنانا۔ ـ ہٗ: گواہ کو جھوٹا قرار دے کر مسترد کرنا۔ ـــ ہٗ: کسی چیز کو ملمع کر کے پیش کرنا، کو جعلی بنانا۔ تَبَهْرَجَ: سجنا، آراستہ ہونا، سنورنا، بناؤ سنگار کرنا، بہترین لباس پہننا، جعلی ہونا۔ بَهْرَج: جعلی، نقلی، بناوٹی، کھوٹا، مصنوعی، نکما، ناقص، بے کار، برا، جعلی روپیہ، بھڑک دار، گھٹیا سجاوٹ، سستی بناؤ سنگار کی چیزیں، ردی چیز، فضول شے، ستا مال۔ بَهْرَجة: خالی خولی نمائش، ٹیپ ٹاپ، دکھاوا یا تماشہ، کھوکھلی شان و شوکت۔ بَهْرَجان: بھڑکدار، گھٹیا سجاوٹ۔ مُبَهْرَج: بھڑکیلا، بھڑکیلا اور بھونڈا، بھڑکدار اور بھدا، زرق برق۔ مُرصّع مزین، بڑی زیبائش والا، دکھاوے کا شوقین، فضول، بے کار، بیہودہ، ستا، بھدا، بھونڈا، بدنما، بدذوق، بے ذوق۔

○ بَهْرِيز: یخنی، شوربہ، آبجوش، ماء اللحم۔

بھرم: ا۔ بَهْرَمَ بَهْرَمَةً شعرَہٗ: بالوں کو مہندی سے رنگنا۔ تَبَهْرَمَ: مہندی سے سرخ ہونا۔ البَهْرَم: حنا، مہندی۔ ـــ و البَهْرَمَان: زردی رنگ کا رنگنے کا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مسالہ۔ البَهْرَمَة: کلی کے شگوفے۔

۲۔ البَهْرَمَة: اہل ہند کی عبادت، برہمنوں کی عبادت۔

بهز: بَهَزَ ـ بَهْزًا و اَبْهَزَه: کو سختی سے ہٹانا، پر غالب آنا۔ المِبْهَز: سختی سے ہٹانے والا۔

بهش: ا۔ بَهَشَ ـ بَهْشًا الیه: کے پاس خوش خوش آنا، کا مشتاق ہونا۔ البَهْش من الرجال: شگفتہ پیشانی والا آدمی۔

۲۔ بَهَشَ ـ بَهْشًا بیده الیه: لینے کے لئے کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ ـ للبکاء: رونے کے لئے تیار ہونا۔ ـ عنه: کی چھان بین کرنا۔

۳۔ تَبَهَّشَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا۔

۴۔ البَهْش: ترکوگل جو ایک درخت کا پھل ہے۔ البَهْشِیَّة (ن) ایک جنگلی درخت جس کی لکڑی عمدہ ہوتی ہے اور دستے وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے۔

بهص: بَهْصَلَ و تَبَهْصَلَ: کپڑے اتار کر جوئے میں بازی پر لگانا۔ بَهْصَلَ القومَ من مالهم: کو ان کے مال سے نکالنا۔

بهظ: ا۔ بَهَظَ ـ بَهْظًا و اَبْهَظَهُ الحملُ او الامرُ: کو حمل یا کام کا بوجھل کرنا اور مشقت کا سبب بننا۔ البَاهِظَة: مشقت واذیت کا باعث۔ جس سے مشقت یا اذیت پیدا ہو (مؤنث)، مصیبت۔ المَبْهُوظ: طاقت سے زیادہ تکلیف دیا ہوا۔ القِرنُ المبهوظ: مغلوب ساتھی یا مدمقابل۔

۲۔ اَبْهَظَ حوضَهٗ: کا حوض بھرنا۔

○ بَهَظَ ـ بَهْظًا ه: پر ظلم کرنا، کو بوجھ تلے پیس ڈالنا، (کام کا یا بوجھ کا) پر زیادہ بوجھ ڈالنا۔ اَبْهَظَ ه: بمعنی بَهَظَ ه۔ بَاهِظ: بھاری، سخت یا مار ڈالنیوالا، صبر آزما، تکلیف دہ، حد سے زیادہ، فزوں از حد، بہت زیادہ، بہت ہی، بے انداز، مہنگا، گراں، گراں بہا، قیمتی، بیش قیمت۔

بهق: البَهَق: جسم پر سفید داغ جو برص کا نہ ہو۔ بَهَقُ الحجر (ن): کائی سے مشابہ چٹانوں پر پھوٹنے والی ایک قسم کی گھاس۔

○ بَهَق: ایک قسم کی کائی، جلدی مرض، داد، کھجلی، کھاج، کوڑھ کی ایک نرم شکل۔

بهل: ا۔ بَهَلَ ـ بَهْلًا ه اللّٰهُ: پر اللہ تعالیٰ کا لعنت بھیجنا۔ بَاهَلَ بعضُهُم بعضًا: ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔ تَبَهَّلوا و تَباهلوا: ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔ اِبْتَهَلَ الرجلان: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ البَهلة و البُهْلَة: لعنت۔

۲۔ بَهَلَ ـ و اَبْهَلَ ه: کو ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ بَهَلَ ـ و استَبْهَلَ الوالی رعیَّتَه: حاکم کا رعایا کو آزاد چھوڑ دینا کہ جو چاہے کرے۔ بَهِلَتْ ـ بَهَلًا الناقةُ: اونٹنی کے تھن کھول کر بچہ کو دودھ پینے دینا۔ البَاهِل جمع بُهْل و بُهَّل من النوق: وہ اونٹنی جس کے تھنوں پر کوئی بندش نہ ہو۔ ـــ: بے ہتھیار نہتا، لاٹھی کے بغیر چرواہا، بغیر کسی کام کے آنے جانے والا۔

۳۔ اِبْتَهَلَ اِلی اللّٰه: اللہ تعالیٰ سے بعجز وانکساری دعا کرنا۔ البُهْلُول جمع بَهَالِیل: جامع الفضائل سردار، بہت ہنسانیوالا۔

۴۔ البَهْلَوان: رسی پر چلنے والا، نٹ۔

○ بَهَلَ ـ بَهْلًا ه: پر لعنت بھیجنا، کو بددعا دینا۔ تَبَهَّلَ و تَبَاهَلَ: ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، ایک دوسرے کو بددعا دینا۔ اِبْتَهَلَ (اِلی اللّٰه): سے عاجزی سے دعا کرنا، التجا کرنا۔ اِبْتِهَال: دعا، التجا۔ بَاهِل جمع بُهْل: آزاد۔ بُهْلُول جمع بَهَالِیل: مسخرہ، بھانڈ، نقال، بے وقوف۔

○ بَهْلَوان جمع بَهْلَوانات: بازی گر، نٹ، رسی پر ناچنے والا، رسی پر چلنے والا۔ بَهْلَوانِی: بازی گرانہ۔ حَرَکات بهلوانیة: بازی گری، مضحکہ خیز حرکات، لا اُبالی پن، بازی گر کی کود پھاند، اچھل کود۔ طیران بهلوانی: ہوائی بازی گری، کرتبوں والی اڑان، پرواز۔

بهم: ا۔ بَهَّمَ بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہو کر وہیں رہ پڑنا۔ اَبْهَمَهٗ عن الامر: کو سے روکنا، ہٹانا۔

۲۔ بَهَّمَ البَهْمَ: (گائے، بھیڑ، بکری) کے بچہ کو ماں سے جدا کر کے اکیلے چرانا۔ البَهْم و البِهَم و البِهَام: واحد بَهْمة و البَهَمَة: (گائے، بھیڑ بکری کا) بچہ۔ البَهِیمة جمع بَهَائِم: خشکی و تری کا ہر چوپایہ، سوائے درندوں اور پرندوں کے۔

۳۔ اَبْهَمَ المکانُ: جگہ کا بُہمی اُگانا۔ البُهمی (ن): جو جیسا پودا۔

۴۔ اَبْهَمَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ ـــ الامرَ: کو چھپانا۔ تَبَهَّمَ و اِسْتَبْهَمَ الامرُ علیه: پر معاملہ مشتبہ ہونا، دشوار و مشکل ہونا۔ اُسْتُبْهِمَ علیه: شور مچنے کی وجہ سے گفتگو نہ کر سکنا۔ البُهَم: مشکل امور۔ البُهْمَة جمع بُهَم: سخت و مشکل کام: وہ بہادر جس پر کسی ہمسر کا بس نہ چلے۔ البَهِیمة: ہر وہ جانور قوت گویائی سے محروم ہو۔ [illegible]

marfat.com

کلامٌ مُبْهَم: غیر معروف کلام۔ طریق مُبْهَم: بے دیکھا بھالا راستہ۔ حائط مُبْهَم: بے دروازہ دیوار۔ الأَبْهَم جمع بُهْم: گونگا۔

۵۔ البُهْمَة جمع بُهَم: چٹان۔ البَهِیم جمع بُهْم و بُهُم: سیاہ، کالا۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ بَهِیم: یک رنگا گھوڑا۔ لیلٌ بَهِیم: ساری تاریک رات۔ الإِبهام جمع أَبَاهِم و أباهِیم: انگوٹھا۔ (مونث ہے کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے)۔

○ أَبْهَمَ ه: کو غیر واضح بنانا، دھندلا بنانا، مشکوک بنانا، مشتبہ بنانا، نا قابل فہم بنانا۔ تَبَهَّمَ اِسْتَبْهَمَ علی پر غیر واضح ہونا، مشکوک و مشتبہ ہونا، نا قابل فہم ہونا، ذو معنی یا مبہم ہونا۔ بَهْمَة: بھیڑ کا بچہ، برہ، بھیڑ یا مینڈھا۔ بَهِیم: کالا سیاہ، کالا بھجنگ۔ بَهِیمَة جمع بَهَائِم: جانور، چوپایا، جمع: ڈھور ڈنگر، مال مویشی، چوپائے گائے بیل، (بڑے) پالتو جانور۔ بَهِیمی: حیوانی، بہیمانہ، حیوانوں کا سا، گاؤدی، گھامڑ۔ بَهِیمِیَّة: حیوانیت، سنگدلی، نفسانیت، وحشیانہ پن، بے دردی، ہوس پرستی۔ اِبْهَام: اغلاق، گم نامی، اندھیرا، تاریکی، اخفا، ابہام، مبہم بات۔ اِبْهَام جمع اَبَاهِیم: انگوٹھا، بڑی انگشت پا۔ بَاهِم: بڑی انگشت پا۔ مُبْهَم: غیر واضح، دھندلا، مشکوک، مشتبہ، تاریک، مخفی، پوشیدہ، پراسرار، مبہم۔ عددٌ مُبْهَم: قائم بالغیر نمبر۔ الاسم المُبْهَم: اسم اشارہ۔

بهن: تَبَهْنَسَ: اترا کر پھرنا، کلول کرنا، اکڑ کر چلنا، اترانا، اکڑنا۔

بها: بَهَا ـ بَهَاءً: حسین، خوش شکل ہونا، ظریف ہونا۔ صفت: بَهِیّ مونث بَهِیَّة۔ ـــ ه: پر خوبصورتی میں غالب آنا۔

○ بَهَا ـ و بَهُوَ ـ و بَهِیَ ـ بَهَاءً: خوبصورت ہونا۔ بَهَاهُ ب: سے میں مقابلہ کرنا۔ ـــ ب: پر فخر کرنا، مغرور ہونا، کی ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا۔ ـــ ه ب: سے کی ڈینگ مارنا۔ تَبَاهَا: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ ـــ ب: پر فخر کرنا۔ بَهْو جمع أبهاء: ہال (کمرہ)، بیٹھک، دیوان خانہ، استقبال کرنے کا ہال۔

بهی: ا۔ بَهِیَ ـ بَهَاءً: حسین ہونا، ظریف ہونا۔ صفت: بَهِیّ مونث بَهِیَّة۔ بَهَاهُ فی الحسن: پر خوبصورتی میں غالب آنا۔ بَاهَاهُ فی الحسن: سے حسن و خوبی میں مقابلہ پر فخر کرنا۔ اَبْهَی: خوبصورت چہرے والا ہونا۔ اِبْتَهَی به: پر فخر کرنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تَبَاهُوا: باہم فخر کرنا۔

۲۔ بَهِي - بَهِيَ البيتُ: ویران ہونا، خالی ہونا۔ بَهَّى البيتَ: گھر کو کشادہ کرنا۔ أَبْهَى البيتَ: کو غیر آباد چھوڑنا۔ ـــ الخيلَ: گھوڑے کو جنگ کے کام میں نہ لینا۔ ـــ الاناءَ: برتن کو خالی کرنا۔ البَهْوُ: گھروں اور خیموں کے سامنے کی وہ جگہ جو مسافروں اور مہمانوں کی فرودگاہ ہو، ملاقات کا کمرہ جمع أبْهَاء و بُهُوّ و بُهِيّ۔

○ بَهِــي: خوبصورت، شاندار، عظیم الشان، گراں قدر، بیش بہا، آراستہ پیراستہ، پرتکلف، عالیشان، چمکدار، شعاع افشاں، نور افشاں، تابندہ، فروزاں۔ بَهَائي: بہائی (بہائی مذہب سے متعلق جمع بَهَائيون: بہائی، بہائی مذہب کا پیروکار۔ أَبْهَى: زیادہ شاندار، زیادہ روشن، زیادہ تاباں، زیادہ چمکدار۔ مُبَاهَاة و تَبَاهٍ: غرور، تکبر، شیخی، ناز، گھمنڈ، نخوت، لاف زنی، ڈینگ، خودستائی۔

باء: ۱۔ بَاءَ يَبُوءُ بَوْءًا اليه: کی طرف لوٹنا۔ ـــ ہ و به: کو لوٹانا۔ ـــ بالحق او بالذنب: حق یا گناہ کا اقرار کرنا۔ أَبَاءَ الشيءَ و بالشيء اليه و عليه: کو کی طرف لوٹانا، کسی چیز کو کسی شخص کو لوٹانا۔

۲۔ باءَ فلانٌ بفلان بَوَاءً: کے بدلہ میں قتل کیا جانا۔ کہا جاتا ہے: دمٌ بَوَاءُ دمٍ: خون خون کے برابر ہے۔ بُؤْ به: ان میں سے ہو جا جو اس کے عوض میں مارے جائیں گے۔ بجیر سے مہلہل کا کہنا اسی معنی میں جس میں اس نے کہا تھا: بُؤْ بشسعِ نعلِ كُلَيب: کلیب کے جوتے کے تسمے کے برابر ہو جا۔ الشِّسع: درمیانی انگلی اور ساتھ والی انگلی کے درمیان جوتے کا تسمہ ہے۔ أَبَاءَ القاتلَ بالقتيل: قاتل کو مقتول کے بدلہ میں قتل کرنا۔ تَبَاوَأَ الشيئان: دو چیزوں کا برابر ہونا۔ اِسْتَبَاءَ القاتلَ بالقتيل: قاتل کو مقتول کے بدلہ میں قتل کرنا۔

۳۔ بَوَّأَ الرمحَ نحوه: نیزہ کسی کی طرف سیدھا کرنا، تاننا۔ ـــ ہ و له منزلاً: مکان کو کسی کے لئے تیار کرنا اور اس کو وہاں ٹھہرانا۔ ـــ المكانَ: کسی جگہ اترنا، ٹھہرنا۔ أَبَاءَ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـــ ہ منزلاً و في المنزل: کو گھر میں اتارنا۔ تَبَوَّأَ المكانَ و به: کسی جگہ اقامت اختیار کرنا۔ اِسْتَبَاءَ المنزلَ: کسی مکان میں اقامت اختیار کرنا، اقامت پذیر ہونا۔ البَاءَة و البِيئة و المَبْوَأ و المَبَاءَة: گھر، مکان، سرائے۔

۴۔ أَبَاءَ منه: سے بھاگنا۔

۵۔ البِيئَة: حالت۔ کہا جاتا ہے: انه حسن البِيئة: وہ اچھی حالت والا ہے۔ المبيئة من الحاجات: شدید ضرورت۔ البُوَاء (ح): بڑا سانپ۔

○ بَاءَ ـ بَوْءًا: لوٹنا، دوبارہ آنا۔ ـــ ب: کے ساتھ واپس آنا، کو واپس لانا، کو لانا، حوالے کرنا۔ بَـــاءَ بالفشل يا باء بالخيبة: ناکام ہونا۔ بَوَّأَ ہ/ل ہ: میں کے لئے جگہ یا جائے سکونت فراہم کرنا، کو کسی جگہ میں رکھنا، رہائش دینا۔ بَوَّأَ مكانـاً: کسی جگہ میں رہنا ٹھہرنا قیام کرنا۔ أَبَاءَ ہ: کے لئے کسی جگہ جائے سکونت مہیا کرنا۔ ـــ ب: میں رہنا، رہائش پذیر ہونا، اقامت اختیار کرنا۔ تَبَوَّأَ ہ: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ ـــ مركزاً: جگہ پر قبضہ کرنا۔ ـــ مقاماً: کسی منصب یا مقام پر رہنا، لگا رہنا۔ ـــ مكاناً: زیادہ تائید و حمایت حاصل کرنے لگنا، عام طور پر مقبول ہو جانا۔ تَبَوَّأَ العرشَ: تخت نشین ہونا۔ تَبَوَّأَ الحكمَ: برسر اقتدار آنا، اقتدار حاصل کرنا۔ بِيئَة جمع بيئات: رہائش گاہ، سکونت، جائے بود و باش، وطن، نشست، صورت حال، ماحول، گرد و نواح، گرد و پیش، سماجی ماحول، گھر، کسی جانور یا پودے کا اصلی علاقہ۔ مَبَاءَة: آنے کی جگہ، رہائش، سکونت، مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، مکان۔ تَبَوُّء تبوء العرش: تخت نشینی۔

باب: ۱۔ بَابَ ـ بَوْبًا له: کا دربان ہونا۔ تَبَوَّبَ الرجلَ: کو دربان بنانا۔ الباب جمع أبْوَاب و بِيبَان: دروازہ۔ البِوابة: دربانی، دربانی کی تنخواہ۔

۲۔ بَوَّبَ الكتابَ: کتاب کو ابواب پر تقسیم کرنا۔ الباب من الكتاب: کتاب کا باب۔

۳۔ البَابَة جمع بابات في الحساب و الحدود: غایت، انتہاء، شرط، قسم، خصلت۔ کہا جاتا ہے: هذا شيء من بابتك: یہ چیز تمہارے موزوں و مناسب ہے۔ بابات الكتاب: کتاب کی سطریں۔

○ بَوَّبَ ہ: کو قسموں میں تقسیم کرنا، ٹولیوں میں ترتیب دینا، کو باقاعدہ ترتیب دینا، کی درجہ بندی کرنا، کی قسم مقرر کرنا۔ باب جمع ابواب و بيبان: دروازہ، گیٹ، راستہ، گزرگاہ، داخلہ، باب، فصل، قسم، سیکشن، کالم، سرخی، عنوان، گروہ، گروپ، ٹولی، ڈرجہ، جنس، مرتبہ، زمرہ، میدان، خیال اور عمل کا میدان۔ باب المندب: جنوب مغربی عرب اور افریقہ کے درمیان آبنائے۔ الباب العالي: باب عالی، دولت عثمانیہ کی حکومت۔ ...

قریب، نزدیک، قریب الوقوع، سر پر کھڑا، نازل ہونے والا۔ فَتَحَ باباً جديداً: نیا راستہ کھولنا۔ نیا امکان دستیاب کرنا۔ فُتِحَ بـابُ: شروع ہونا۔ قَفَلَ باب الشيء: کو ختم کرنا، بند کرنا۔ مِن باب الفضل: بطور نوازش۔ مِن باب أَوْلَى: مزید دلیل کے ساتھ۔ في هذا الباب: اس معاملہ کے بارے میں، اس کے متعلق۔ مِن باب الضرورة أنّ: یہ ضروری ہے کہ۔ ليس هذا مِن باب الصُّدفة: یہ اتفاقی مطابقت نہیں، یہ زمانی مطابقت نہیں۔ كان مِن باب يا دخل في باب: کے متعلق ہونا، کے زمرہ میں آنا۔ فريدٌ في بابه: اپنی قسم میں منفرد۔ طلع على باب الله: اپنی روزی کمانا۔ بَابَة جمع بابات: قسم، نوع، زمرہ۔ بَوَّاب جمع بَوَّابون: دربان۔ بِوَابة: دربانی۔ بَوَّابة جمع بَوَّابات: (بڑا) پھاٹک۔ بَوَّابة القنطرة: نہر کی سطح اونچی نیچی کرنے والا دروازہ۔ تَبْوِيب: ابواب میں تقسیم، درجہ بندی، گروہ بندی، باقاعدہ ترتیب، ابواب یا دفعات میں ترتیب۔ مُبَوَّب: گروہوں میں مرتب شدہ، زمروں میں ترتیب دیا ہوا، درجہ بندی کیا ہوا۔

○ بوبلين: پاپلین Poplin۔

○ بُوبِينَة: ریل Spool, reel۔

بوت: ۱۔ البُوت (ن): خاردار، سفید اور گلابی پھولوں کے رنگ کا چھوٹا یا متوسط اونچائی کا درخت جو معتدل علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔

۲۔ البوتاس (ك): پوٹاش۔ البوتاسيوم (ك): پوٹاشیم Potassium۔

۳۔ البوتاز (ك): گیس جو گھروں میں ایندھن کے طور پر بکثرت استعمال ہوتی ہے۔

۴۔ البُوتَقَة و البُوْدَقَة: کٹھالی (فارسی لفظ)۔

○ بوتقة: کٹھالی، سخت آزمائش، نازک موقع۔ في بوتقة الزمان: زمانہ کی کٹھالی میں۔

باث: بَاثَ ـ بَوْثًا و أَبَاثَ و اِبْتَاثَ الشيءَ و عن الشيء: کو تلاش کرنا، کا مطالعہ کرنا، کا جائزہ لینا، کی تحقیقات کرنا۔ ـــ التراب: مٹی کو متفرق کرنا۔ ـــ المكانَ: جگہ کھود کر اس میں مٹی ملانا۔ ـــ الرمادَ: راکھ بکھیرنا۔ اِسْتَبَاثَ التراب: مٹی نکالنا۔ کہا جاتا ہے: ترك دارهم حُوث بُوث: ان کے گھروں کو چاپایوں کے کھروں اور ٹاپوں سے کھدوا کر ویران اور خراب کر دیا۔

باج: ۱۔ بَاجَ ـ بَوْجًا الشرُّ فلاناً و عليه: کسی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پر مصیبت آپڑنا، گرنا، نازل ہونا۔ اِنباحت علیهم الدواهی: لوگوں پر مصیبتوں کا ٹوٹ پڑنا۔
البَائِحَة جمع بَوَائِح: مصیبت۔
۲۔ بَاحَ ۓ بَوْحًا البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ اِبْاحَ و تَبَوَّحَ البرقُ: زور سے چمکنا۔
۳۔ بَاحَ ۓ بَوْحًا البعیرُ: اونٹ کا تھکنا۔
۴۔ الباح دیکھئے باَح۔
○ بُوجِیَه جمع بُوجِیَات: سپارک پلگ spark plug۔

باح: ا۔ بَاحَ ۓ بَوحًا و بُؤُوحًا و بُؤُوحَةً الشیءُ: ظاہر ہونا، مشہور ہونا۔ ــ الیه بالسِرِّ: سے بھید ظاہر کرنا۔ أَبَاحَ السِرَّ: بھید ظاہر کرنا۔ البَوَاح: کھلم کھلا۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَهُ بَوَاحًا: اس نے اس کو کھلم کھلایا، دن دیہاڑے کیا۔ البَوْح: دل کی باتیں کھول کر رکھ دینے والا۔
۲۔ اَبَاحَ الشیءَ: کو جائز ٹھہرانا۔ اِسْتَبَاحَ الشیءَ: کو جائز بنانا یا جائز شمار کرنا، کو کرنے کی جسارت کرنا، جرأت کرنا، (خطرناک کام) کا بیڑا اٹھانا۔ ــ القومَ: قوم کی بیخ کنی کرنا۔ الإباحی: گناہوں کو خود کرنے والا اور دوسروں کو اس بات کی اجازت دینے والا اور واجب فرائض کو ترک کرنے اور دوسروں کو اس کی اجازت دینے والا، آوارہ، عیاش، اوباش، جسے روکا نہ گیا ہو، فوضوی، نراجی، دہریہ، لامذہب، آزاد خیال۔
۳۔ البَاحَة جمع بُوح: پانی یا اس کی بڑی مقدار، نخلستان، گھر کا صحن، آنگن۔ باحةُ الطریق: راستہ کا بیچ۔ البُوحَی: بچھاڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے: ترکهم بَوْحَی: اس نے ان کو پچھاڑے ہوئے چھوڑا۔
○ باحَ ۓ بَوْحًا: (راز) کا معلوم ہو جانا، کھل جانا، فاش ہونا، ظاہر ہونا، افشا ہونا، قبل از وقت معلوم ہونا۔ ــ الی و لِ: کو بھید معلوم ہو جانا، پر بھید کھل جانا، ظاہر ہو جانا، افشا ہو جانا۔ اَبَاحَ ہ/ب: کو ظاہر کرنا، کا انکشاف کرنا۔ ــ ہ/ب ل: سے کسی بات کو ظاہر کرنا، کا انکشاف کرنا۔ ــ ہ: کو چھوڑنا، ترک کرنا، کو عوامی ملکیت بنانا، کو بے وارث قرار دینا۔ ــ ہ ل: کو کسی چیز کی اجازت دینا، کو کے لئے چھوڑنا، کو کچھ کرنے دینا۔ ــ ہ: کا جواز پیش کرنا، کی توجیہ کرنا۔ اِسْتَبَاحَ ہ: کو ظاہر کرنا، دکھانا، کو عوامی ملکیت سمجھنا، بے وارث سمجھنا، کو معقول شکار شمار کرنا، کو جائز اور روا سمجھنا، قانون کے مطابق سمجھنا۔ ــ حُرْمَتَهُ: کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ ــ ہ: پر قبضہ کرنا، پر قابض ہونا، کا مالک بن بیٹھنا، کو مال غنیمت کے طور پر لینا، کو ضبط کر لینا، زبردستی لے لینا۔ استباح دمَهُ: کو جلاوطن کرنا، کے سر سے قانون کا سایہ اٹھا لینا۔ بَوح: (راز) کا افشا، وہ چیز جس کا اعتراف، اقبال یا اظہار کیا جائے، اعتراف گناہ۔ بُوح: چوڑی اور کھلی جگہ، صحن، ہال۔ بَاحَة جمع باحات: وسیع اور کھلی جگہ، کھلی جگہ، صحن، ہال، چوک، چھوٹا شاپنگ سنٹر۔ اِباحِیَّة: سماجی قیود سے آزادی، آوارگی، بدکاری، اوباشی، فوضویت۔ مُباح: جس کی اجازت دی گئی ہو، قانونی، قانون کے مطابق جائز، ہر ایک کے لئے کھلا، جس کی ہر ایک کو اجازت ہو، آزاد بے قدر، بے مالک، ایسا کام جس کے لئے نہ تو انعام ہو نا نہ سزا۔ جمع مُباحات: ایسے کام جن کے لئے نہ تو انعام ہو نہ سزا۔

باخ: بَاخَ ۓ بُؤُوخًا اللحمُ: گوشت کا خراب ہونا۔ ــ بُؤُوخًا: تھک جانا۔ کہا جاتا ہے: عدا حتی باخ: وہ دوڑا یہاں تک کہ تھک گیا، دوسرے لفظوں میں وہ دوڑ دوڑ کر تھک گیا۔ ــ الحرُّ و الغضبُ و النارُ: حرارت کا سرد ہونا، غصہ کا فرو ہونا، آگ کا بجھنا۔ أَبَاخَ النارَ: آگ کو بجھانا۔ اسی سے ہے: أبخ عنك الظهیرة: ٹھہرو یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی ختم ہو جائے۔
○ بوخ: بَاخَ ۓ بوخًا: گھٹنا، کم ہونا، کم ہو جانا، عام سطح پر آ جانا، فرو ہو جانا، (آگ کا) بجھ جانا؛ مرجھانا، سوکھنا، خشک ہونا، زرد ہو جانا، رنگ اڑنا۔ (گوشت) کا خراب ہو جانا۔ بَوَّخَ ہ: کو خراب کرنا۔ بُوَاخ: تبخیر، سانس باہر نکالنا، گیس چھوڑنا، بھاپ، بخار (جمع بخارات)۔ تَبْوِیخ النكتة: کسی کہانی کی اصل بات کو بگاڑنا۔ بَایِخ: بگڑا ہوا، برا، پھیکا، بے لطف، بے مزہ، باسی (نیز باسی یا بے لطف مذاق)۔
○ بُوخارست: ایک شہر کا نام Bucharest۔
○ بُودرة: پاؤڈر (فرانسیسی لفظ)۔
○ بُودقة جمع بَوَادِق: کٹھالی، سخت امتحان۔
○ بُوذا: بدھ، مہاتما بدھ (ایک مذہب کا بانی)۔ بُوذی: بدھ مذہب کا پیرو، ایک بدھ۔ بُوذیَة: بدھ مت۔

باذ: بَاذَ یَبُوذ بَوْذًا: محتاج ہونا، متواضع ہونا۔

بار: ا۔ بَارَ ۓ بَوْرًا و بَوَارًا تِ السوقُ او السلعةُ: کساد بازاری ہونا۔ ــ العملُ: کام کا لا حاصل ہونا۔ ــ ت الارضُ: زمین کا بے کاشت کے [illegible] الارضَ [illegible]
البَائِر جمع بُور: بے کاشت کی زمین۔ کہا جاتا ہے: حَائِرٌ بَائِرٌ: کسی مرشد کی اطاعت نہ کرنے والا اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ دینے والا۔ البُور من الارض: بے کاشت کی زمین، غیر مزروعہ زمین۔ البَوَار: کساد بازاری۔
۲۔ بَارَ ۓ و اِبْتَارَ الرجلَ: کا تجربہ کرنا، کو آزمانا۔
۳۔ بَارَ ۓ بَوْرًا و بَوَارًا: ہلاک ہونا۔ اَبَارَهُ: کو ہلاک کرنا۔ تَبَوَّرَ نفسَه: اپنے آپ پر کی ہلاکت کے باعث نوحہ کرنا۔ البُور: خراب، ہلاک ہونے والا، بے خیر۔ کہا جاتا ہے: امرأةٌ بُورٌ و قومٌ بُورٌ: ہلاک ہونے والی عورت یا قوم۔ البَوَار: ہلاکت۔ دار البوار: جہنم۔
۴۔ البُورجوَازِیَّة: بورژوا، مزدوروں اور چھوٹے عہدے داروں نیز نوابوں اور بڑے سرمایہ داروں کے درمیان کا شہری متوسط طبقہ۔
۵۔ البُورْصَة جمع بورصات: شاک ایکسچینج، بازار حصص (وہ جگہ جہاں سامان یا مال تجارت اور حصے اعلانیہ طور پر خرید اور بیچے جاتے ہیں)، ایسی تجارت یا اس کام میں مشغول لوگ)۔ عربی میں اُسے اَلْمَثَابَة کہتے ہیں۔
۶۔ البُوْرَق (ك): بورکس borax۔
۷۔ البُوری جمع بَوَاری (ح): دریائی مچھلی کی ایک قسم۔ البُورِیَة و البُورِیاء: چٹائی۔ البَوَّاری: چٹائیاں بیچنے والا (فارسی لفظ)۔
○ بور: بَارَ ۓ بَوْرًا و بَوَارًا: ہلاک ہونا (زمین کا)، بے کاشت کے ہونا، (کام کا) لا حاصل ہونا، ناکام ہونا، سودمند نہ ہونا، بے نتیجہ ہونا، (سامان یا مال تجارت کا) فروخت کے قابل نہ ہونا، کساد بازاری ہونا۔ بارت البنتُ: لڑکی کا شوہر نہ حاصل کر سکنا۔ بَوَّرَ ہ: زمین کو بے مزروعہ رہنے دینا، افتادہ رہنے دینا، کسی چیز کو بے کار کرنا، غیر منافع بخش بنانا۔ بُور: افتادہ، غیر مزروعہ، بے کاشت۔ ارضٌ بورٌ جمع اراضٍ بُورٌ: افتادہ زمین، غیر مزروعہ زمین، بے کاشت زمین، بنجر زمین۔ بَوار: ہلاکت، تباہی، بربادی۔ دارُ البَوَار: جہنم۔ بَائِر: غیر مزروعہ، بے کاشت اور افتادہ (زمین)۔ بُورانی: ایک سبزی کا سالن، دم پخت۔
○ بُور سعید: پورٹ سعید (شمالی مشرقی مصر کی بندرگاہ)۔
بُور سُودان: پورٹ سوڈان (شمال مشرق سوڈان کی بندرگاہ)۔
○ بور توریکو: پورٹوریکو Puertorico (ایک شہر کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نام)۔
○ بُورتوغال: پرتگال Portugal (ایک ملک کا نام)۔
○ بُور فُؤاد: پورٹ فؤاد (پورٹ سعید کے مقابل مصر کی ایک بندرگاہ)۔
○ بُورما: برما Burma (ایک ملک کا نام)۔
○ بُوری: بگل، ترم۔
○ بوریہ: بلوری (ایک کھانے کا نام)

باز: البَاز جمع بِیزان و أبْوَاز (ح): باز (ایک شکاری پرندہ)۔ البُوز و البُوزَة (ط): آئس کریم۔ دودھ وشکر کی جمائی موٹی برف۔
○ بَوَّزَ: ہونٹ لٹکانا، منہ بنانا، اظہار ناراضگی کرنا، روٹھ جانا، خفا خفا یا روٹھا ہوا دکھائی دینا، آزردہ نظر آنا۔ بُوز جمع أبْوَاز: تھوتھنی، منہ، دہانہ، سونڈ، کسی چیز کا آگے نکلا ہوا حصہ۔ تَبْوِیزَة: آزردہ صورت۔ مُبَوِّز: آزردہ، خفا، بیزار، روٹھا ہوا، خفا خفا۔ بُوزَة: آئس کریم۔ بُوزَہ: جو کی شراب جیسا مشروب۔
○ بُوس: بس bus۔

باس: ا۔ بَاسَ ۔ بَوْسًاہ: کا بوسہ لینا۔
۲۔ البُوسِیر جمع بَوَاسِیر: بواسیر۔
۳۔ البُوسْطَة: ڈاک، میل۔
○ بَوسَة: بوسہ۔
○ بُوسْتُو: زنانہ زیر جامہ Corset۔
○ بُوسْطَة و بوستہ: ڈاک، میل۔
○ البوسفور: باسفورس The Bosporus۔

باش: بَاشَ ۔ بَوشًا و بَوَّشَ و تَبَوَّشَ القَومُ: مل جل کر شور مچانا۔ البَوش و البَوْش: مخلوط گروہ، شور کرنے والی جماعت۔ کہا جاتا ہے: تـرکھم هَوشًا بَوشًا: اس نے انہیں ایک دوسرے میں گھلے ملے چھوڑا۔ الأوباش: اسکی کی مقلوب جمع ہے۔ البُوشِي و البَوْشِي: بہت عیالدار غریب شخص۔
○ بَاشَ ۔ بَوشًا: (ہجوم کا) اودھم مچانا، چلانا، زور سے بولنا، زور سے ہنسنا۔ بَوَّش: بمعنی بَاشَ۔ بَوش جمع أوْبَاش: انبوہ، عوام الناس، اراذل، رذیلوں کی ٹولی۔

باص: ا۔ بَاصَ ۔ بَوْصًاہ: سے آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا۔ — في الأمر: پر اصرار کرنا۔ — منه: سے بھاگ کر چھپنا۔ بَوَّصَ: میداں میں سبقت لیجانا۔ البَوص جمع أبْوَاص: دوری، بعد۔ البَائِص من الطریق: لمبا راستہ، دور کا راستہ، پر مشقت راستہ۔
۲۔ بَوَّصَ الشَّيءُ: چیز کا صاف رنگ والا ہونا۔ البُوص: رنگ وصورت۔ البَوْص: رنگ وصورت ریشم یا کتان۔
۳۔ اِنْبَاصَ: سکڑنا۔ البُوص جمع أبْوَاص: چوتڑ۔
○ بُوص (واحد بُوصَة): نرسل۔ بُوصَة جمع بُوصات: انچ Inch (لمبائی کا پیمانہ)۔
○ بُوص جمع أبْوَاص: لینن یا سلک کا کپڑا۔
○ بُوصلة: پرکار، کمپاس Compass۔

باض: بَاضَ ۔ بَوْضًا: جمائیاں پڑنے کے بعد خوشرو ہونا۔ — بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔

باط: بَاطَ ۔ بَوْطًا: امیری کے بعد غریبی اور عزت کے بعد ذلت سے دوچار ہونا۔ البُوطة جمع بُوَط: کٹھالی، کپڑے وغیرہ میں گول نقشہ، گلکاری۔ البُوط: ٹخنے سے اونچا یا فل بوٹ۔

باع: ا۔ بَاعَ ۔ بَوْعًا و تَبَوَّعَ الحبلَ: دونوں بازو لمبا کر کے رسی کو ناپنا۔ — لِلمساعي: ہاتھ لمبا کرنا۔ البَاع جمع أبْوَاع و باعات و بِیْعَان: دونوں بازوؤں کے پھیلانے کی مقدار۔ کہا جاتا ہے: طویلُ البَاعِ و رَحْبُ البَاعِ: سخی اور طاقتور۔ قصیرُ البَاعِ و ضَیِّقُ البَاعِ: بخیل اور عاجز۔ البَوْع (مص): دونوں بازوؤں کے پھیلانے کی مقدار۔ البُوع: دونوں بازوؤں کے پھیلانے کی مقدار۔ اسی سے ضرب المثل ہے: لا یعرف کوعَهُ من بُوْعِه: وہ بالکل جاہل ہے۔
۲۔ باعَت ۔ بَوْعًا الفرسُ: گھوڑے کا لمبے لمبے قدم رکھنا۔ البَیِّع: لمبے لمبے قدم رکھنے والا۔ فرسٌ بَیِّعٌ: لمبے لمبے قدم رکھنے والا گھوڑا۔
۳۔ بَاعَ ۔ بَوْعًا: بخشش دینے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ اِنْبَاعَ الرجلُ إلیه: کی طرف کشادہ روئی سے بڑھنا۔ — له في البضاعة: مال تجارت بیچتے وقت قیمت میں رعایت برتنا۔ — العرقُ: پسینہ بہنا۔ — تِ الحیَّةُ: سانپ کا جست کرنے کے لئے اپنے بدن کو پھیلانا۔ — الشجاعُ من الصف: بہادر کا صف سے نکلنا۔ باعةُ الدار: گھر کا صحن۔
۴۔ البُوع: پاؤں کے انگوٹھے کے پاس کی ہڈی۔
○ بُوع: ٹخنے کے ساتھ کی ہڈی۔ لا یعرف الکُوعَ من البُوعِ: اسے گھٹنے اور کہنی کا بھی پتہ نہیں۔ محاورۃً بےوقوف شخص۔ باعُ جمع أبواع: پھیلے ہوئے بازوؤں کی مقدار، گہرائی۔ طویل الباع: طاقت ور، لائق، ذہین، ہوشمند، سخی، فیاض، فراخ دل۔ قصیر الباع: کمزور، بے بسی، نالائق، قاصر، کنجوس۔ قصور الباع: بےکسی، کمزوری، نامردی، نالائقی، نااہلی۔ بالباع و الذراع: پوری قوت سے۔

باغ: ا۔ بَاغَ ۔ بَوْغًاہ: پر غالب آنا، کے برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے: انك لعالم لا تُبَاغ: تم ایسے عالم ہو جس کا کوئی مقابل و ہمسر نہیں۔ تَبَوَّغَ فلانٌ علیه: کسی پر غالب آجانا۔
۲۔ تَبَوَّغَ الدمُ به: کے خون کا جوش کھانا۔ البَوْغَاء: گردوغبار۔ بوغاءُ الطِیب: خوشبو کی مہک۔
۳۔ بَوْغ (ن): ایک قسم کا پودا۔
۴۔ البوغنفیلیة (ن): مختلف رنگوں کے پھولوں کا ایک پودا۔
○ بَوَّغَ: یکا یک آلینا۔
○ باغَة: سلولائڈ Celluloit۔ کچھوے کا خول۔
○ بُوْغَادَة و بُوْغَاصَة: پوٹاش Potash، بجی دار پانی۔
○ بُوغاز جمع بَوَاغِیز: آبنائے، بندرگاہ، جہازوں کی قیام گاہ۔ بوغاز الدردنیل: درہ دانیال۔
○ بُوفیه: بوفے buffel۔ ہوٹل کی شراب گاہ، نعمت خانہ sideboard۔

باق: ا۔ باقَ ۔ بَوْقًا و بُؤُوقًا: شرارور، جھگڑا اٹھانا۔ — تِ البائقةُ القومَ: قوم کو مصیبت پہنچنا۔ — القومَ: قوم سے بےوفائی کرنا، دغا کرنا، قوم کی چوری کرنا۔ — القومُ علیه: جمع ہو کر کسی کو ظلماً قتل کرنا۔ اِنْبَاقَ به: پر ظلم کرنا۔ — علیهم الشرُّ: کو شر اور برائی پہنچنا۔ تَبَوَّقَ الوباءُ في الماشیة: مویشیوں میں وباء پھیلنا۔ البائقة جمع بَوَائِق: شر، برائی، مصیبت۔ کہا جاتا ہے: رفعتُ عنك بائقةَ فلان: میں نے تجھ سے فلاں کی لائی ہوئی مصیبت کو دور کر دیا۔
۲۔ بَاقَ ۔: جھوٹ بولنا۔ تَبَوَّقَ: جھوٹ بولنا۔ المُبَوَّق: جھوٹی بات۔
۳۔ بَاقَ ۔ الشيءُ: ظاہر ہونا، غائب ہونا (ضد)۔ — تِ السفینةُ: کشتی کا ڈوبنا۔
۴۔ بَاقَ ۔ الشيءُ: چیز کا بگڑنا، خراب ہونا۔
۵۔ بَوَّقَ في البُوق: بگل بجانا۔ البُوق جمع أبْوَاق و بِیقان و بُوقات (مو): بگل، ترمی، نرسنگا۔ کہا جاتا ہے: جاء بالبوق و نفخ في البوق: ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا، بے ہودہ اور فضول بکنا۔ البَوَّاق: بگل بجانے والا۔
۶۔ البَائِق من المتاع: بے قیمت سامان۔ متاعٌ بائِق: بے قیمت سامان۔ الباقة جمع باقات:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گلدستہ، سبزی کا مٹھا۔ البُوقة جمع بُوَق: بارش کی سخت بوچھاڑ۔

۷۔ بُوْقِيصَا (ن): ایک بڑے حجم کا درخت جس کی لکڑی نرم ہوتی ہے۔ قطب شمالی میں اگتا ہے اور آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔

○ بَوَّقَ: بگل بجانا۔ بُوق جمع بُوقات و أَبْوَاق: بگل، ترم، باجا گاجا، شہنائیوں کی آوازیں، ہارن، بھونپو (گاڑی یا گراموفون کا)۔ آواز کے ذریعے اشارہ کرنے کا آلہ، بھونپو (megaphone)، ترجمان، دو رخی، فریب کاری، دغا، بے وفائی، غداری، افشائے راز۔ بوقُ الصوت بابوق الراديو (ریڈیو کا) لاؤڈ اسپیکر۔ بوقٌ رَحِمِي: رحم میں انڈے کے نکلنے کی نالی، رحم کی نالی جس کے ساتھ ساتھ چل کر عورت کے بیضوی خلیے بچہ دانی میں پہنچتے ہیں Fallopian tube۔ بَوّاق: بگل بجانے والا، ترم بجانے والا۔ باقة: گٹھا، گلدستہ۔ بَائِقة جمع بَوَائِق: مصیبت، بدبختی۔

○ بُوقَال و بُوقالة جمع بَوَاقيل: بغیر دستے کا برتن، آبخورہ، مگ Mug۔

باك: بَاكَ ـ بَوْكًا المتاعَ: سامان بیچنا، خریدنا (ضد)۔ ـ الرجلَ: سے مزاحم ہونا، سے میل جول رکھنا۔ ـ الامرُ: مخلوط ہونا۔ ـ القومُ رأيُهم: اختلاف رائے کی وجہ سے کسی نتیجہ پر نہ پہنچنا۔ انباك عليه الامرُ: پر کسی معاملہ کا مشتبہ ہونا۔

○ بوكسفورد: پٹرول کی گاڑی، دھان لیجانے والی گاڑی، قیدیوں کو لیجانے والی پولیس کی گاڑی (Black Maria)۔

بال: ۱۔ بَالَ ـ بَولاً و مَبالاً: پیشاب کرنا۔ بَوَّلَ و أَبَالَهُ: کو پیشاب کرانا۔ البُوَال: ایک بیماری جس میں پیشاب کثرت سے آتا ہے۔ البَوْل جمع أَبْوَال: پیشاب۔ البُوَلَة: بہت پیشاب کرنے والا۔ المَبْوَلة: وہ چیز جو پیشاب لانے کا سبب ہو۔ المِبْوَلة: پیشاب کرنے کا برتن۔

۲۔ البال: دل (کہا جاتا ہے: ما خطر الأمرُ ببالي: یہ بات میرے دل میں نہیں کھٹکی) حال۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ رَخِيُّ البال: فلاں آسودہ حال ہے۔ کاسف البال: برے حال والا) جس چیز کا اہتمام کیا جائے (کہا جاتا ہے: ليس هذا مِن بالي: یہ وہ چیز نہیں جس کی میں پروا کروں۔ امرٌ ذو بال: مہتم بالشان کام۔ ما بالك؟: تمہاری کیا حالت ہے)۔ (ح) وہیل مچھلی۔ البالة: شیشی، خوشبو کی ڈبیا، گانٹھ (رسی یا لوہے کی پٹیوں سے بندھی ہوئی) (جیسے روئی کی گانٹھ، کپڑوں کی گانٹھ)۔

۳۔ بولفار: ٹھنڈی سڑک، سایہ دار سڑک (Boulevard)۔

۴۔ البوليس: پولیس (عربی شُرْطِي یا جلواز)۔

۵۔ البُوليصه و البُوليصة جمع بَوَالِص: رسید ہنڈی، جہاز میں لدنے والے مال کی فہرست جسے بوليصة الشحن کہا جاتا ہے۔

○ أبال: پیشاب آور ہونا۔ استبْوَل: پیشاب کرانا۔ بَوْل جمع أَبْوَال: پیشاب۔ مرض البَوْل السُّكَّرِي: ذیابیطس۔ بَوْلِي: پیشاب کا۔ المَسَالِكُ البولية: پیشاب کی نالیاں۔ الامراض البولية: گردہ اور مثانہ کی بیماریاں۔ بَوَّالَة: عوامی طہارت خانہ۔ مَبْوَلَة جمع مَبَاوِل: پیشاب دان، پیشاب آور چیز۔ مِبْوَلَه: خواب گاہ میں رکھا ہوا برتن، رات کو پیشاب کرنے کیلئے، بیت الخلاء جائے ضرور فلش کا طہارت خانہ۔ استبوال الدم: گردوں اور مثانے کا فعل خراب ہونے کی وجہ سے خون کی سمیت (Uremia)۔ بَال: حالت، دل، ذہن، آگاہی، اطلاع، دھیان، توجہ، غور، التفات، نگاہ، نظر، لحاظ، خیال۔ ذُو بَال: اہم، نمایاں، ممتاز، قابل توجہ، قابل لحاظ، معنی خیز، سنجیدہ، قابل فکر، مخدوش، سنگین، ضروری۔ فَرَاغُ البال: فرصت، فرصت کا وقت، مہلت، آرام۔ مَشْغُولُ البال: بے چین، ترددخیز، تشویشناک، پریشان کن، بے تاب، پریشان، فکرمند۔ طويلُ البال: صبر سے برداشت کرنیوالا، صابر۔ ما بالُه... (فعل کے ساتھ) کیا وجہ ہے کہ وہ ......؟ کیوں ......؟ مَا بالُك؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ خَلا بالُه: اس کا دماغ آرام میں ہے، اسکو کوئی پریشانی نہیں۔ خَطَرَ ببالِه: اس کے دل میں آیا، اسے خیال آیا۔ أَعْطَى (أَلْقَى، جَعَلَ) بالَهُ إلى (لِ): پر توجہ دینا، کی طرف متوجہ ہونا، پر توجہ مرکوز کرنا، پر سعی مرکوز کرنا، کا خیال کرنا، کو حساب میں رکھنا، کا خیال رکھنا، کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ لَمْ يُلْقِ لِقَولِي بالاً: اس نے میری بات پر کوئی توجہ نہ کی۔ لايَقِلُّ عَنْهُ بالاً: اس سے کم معنی خیز نہیں۔ بُوْل: ڈاک ٹکٹ۔ بال: وہیل مچھلی۔ بَالَّة: گانٹھ (روئی کپڑوں وغیرہ کی)۔ بُولاق: قاہرہ کا ایک علاقہ۔ بولنده بولینڈ: (ملک کا نام)۔ بولندي: پولینڈ کا، پولینڈ کے متعلق جمع بولنديون: پولینڈ کے باشندے۔

○ بُولُو: پولو (Polo)۔

○ بُولُونيا: پولینڈ۔ بُولُوني: پولینڈ کا، پولینڈ کے متعلق، پولینڈ کا باشندہ۔

○ بُولِيس: پولیس (police)۔ بوليس الآداب: بری عادات شکن پولیس کا دستہ۔ البوليس الجنائي: مجرم شکن پولیس فوجداری توڑ پولیس، مجرم پکڑنے والی پولیس۔ البوليس الحربي: ملٹری پولیس۔ البوليس السِرّي: خفیہ پولیس۔ بوليس المرور: ٹریفک پولیس۔ رِوَايَةٌ بوليسية: جاسوسی ناول۔

○ بُولِيسَة و بُولِيصَة جمع بَوَالِس و بَوَالِص: انشورنس کا سرٹیفکیٹ، بیمہ کا معاہدہ، بیمہ کی پالیسی۔ بوليسة الشحن: جہاز میں لدنے والے مال کی فہرست (bill of lading)۔

○ بوليفيا: بولیویا: ملک کا نام۔ بوليفي: بولیویا کا باشندہ۔

○ داء البوليا: گردوں اور مثانے کا فعل خراب ہونے کی وجہ سے خون کی سمیت کی بیماری Uremia۔

بوم: البُوم و البُومَة جمع أَبْوَام (ح): الو (مذکر مونث دونوں کے لئے مستعمل ہے)۔ بوم صفير او خَبَل: یورپ کے بڑے جنگلوں میں رہنے والا ایک الو کی طرح کا رات کا شکاری پرندہ۔

بان: ۱۔ بَانَ ـ بَوْنًا هُ: پر فضل و برتری میں غالب آنا۔ البُون و البَوْن: فضل و برتری۔

۲۔ البُون و البَوْن: دو چیزوں کا آپس میں فرق یا دو چیزوں کے درمیان کی مسافت، دوری۔ البَان واحد البَانَة (ن): ایک قسم کا درخت جس کے پتے بید کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اس کے بیج سے خوشبودار تیل نکالا جاتا ہے۔ اس کی درازی کے سبب قد کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ البِوَان و البُوان جمع أَبْوِنَة و بُوْن و بُوَن: خیمہ کھڑا کرنے کا ستون۔

۳۔ بُونِيسَانَة (ن): ایک خوبصورت درخت جس کی اونچائی ۸ اور ۱۰ میٹر کے مابین ہوتی ہے، پتے بڑے اور گچھوں کی شکل کے اس کے پھول چمکدار قرمزی رنگ کے ہوتے ہیں۔ گرم ممالک میں آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔

○ بونس ایرس: ایک شہر کا نام۔

○ بُونِي جمع بَوَاني: یابو، ٹٹو۔

باه: بَاهَ ـ بَوْهًا للشيء: کو سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: ما بِهْتُ و ما بهتُ للأمر: میں نے معاملہ کو نہیں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سمجھا۔ باهَةُ الدار: گھر کا صحن، آنگن۔ البُوهَة: بے وقوف آدمی، دوات میں ڈالنے کی ڈھنکی ہوئی خشک اون، سیاہی سے تر ہوجائے تو اسے لِیقَة کہا جاتا ہے۔

(ح): بوہ کا مونث: الو یا الو کے مشابہ پرندہ۔

ⓒ بَاهْ: وصال، مباشرت، مجامعت، صحبت، جنسی طاقت، جنسی طبیعت یا خصوصیت۔

ⓒ بُوهِیمیا: بوھیمیا۔ ایک ملک کا نام۔ بوهیمی: ملک بوھیمیا کا، بوہمیا کا باشندہ۔ رند مشرب (صفت و اسم) بوهیمیة: رندی، عیاشی، رندانہ زندگی۔

البَوّ: اونٹنی کا بچہ، بھس یا گھاس بھری ہوئی اونٹنی کے بچہ کی کھال جس کو اونٹنی کے سامنے کر کے دودھ دوہتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح دودھ اتر آتا ہے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: فلان اخدع من البوّ: فلاں شخص بھس بھرے اونٹنی کے بچہ سے زیادہ دھوکے باز ہے۔

ⓒ بُؤُونَة: قدیم مصری کیلنڈر کا دسواں مہینہ۔

بوی: بَوَى يَبْوِي بَيًّا: اپنے فعل میں دوسرے کی نقل کرنا۔ البَوَى: تقلید، نقل، امید، طبیعت، دکھ، نفرت۔

ⓒ بُوْيَة: رنگ روغن، پینٹ، بوٹ پالش۔ بَوْيَجي و بَوْيَاجي: گھروں کا رنگساز، رنگ ساز، بوٹ پالش کرنے والا۔

ⓒ بِيادَة: پیدل فوج۔ بيادي: پیدل فوج کا سپاہی۔

ⓒ بِيَان و بيانة و بيانو جمع بيانات: پیانو Piano۔

ⓒ بيب: پائپ، ٹیوب، کوئی چیز لیجانے والا پائپ، ٹینکی کا پائپ۔

ⓒ بيبَة: پائپ (تمباکو نوشی کا)۔

بات: ۱۔ بَاتَ - بَيْتًا و بَيَاتًا و بَيْتُوتَةً و مَبِيتًا و مَبَاتًا في المكان: کسی جگہ شب باشی کرنا، رات گزارنا ــــ فلانًا و به و عِندَه: کسی کے پاس رات کے وقت آنا، یا رات ہوجانا۔ کہا جاتا ہے: بَاتَ يفعلُ كذا: جب کوئی رات کو کام کرے جس طرح دن کے وقت کام کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے: ظَلَّ يفعل كذا۔ اَبَاتَه: کو رات گزرنے دینا، شب باشی کرانا۔ کہتے ہیں: اَبَاتَهُ اللّٰهُ احسنَ بِيتَةٍ: اللہ تعالیٰ اسے اچھی شب باشی کرائے۔ بَيَّتَ الشيءَ: کو رات کے وقت کرنا یا اس کی منصوبہ سازی کرنا ــــ العدوَّ: دشمن پر شبخون مارنا ــــ رأيَهُ: اپنی رائے پر سوچ بچار کرنا۔ اِسْتَبَاتَ: رات کی خوراک مہیا کرنا۔ البَيَات: دشمن پر شب خون۔

البائت: رات گزرا ہوا پانی یا دودھ جو ٹھنڈا ہوگیا ہو۔ البَيُّوت: بمعنی البائت: (کہا جاتا ہے: اسقني من بَيُّوت السقاء: مجھے رات کو دوھ کر مشک میں رکھا ہوا سرد دودھ پلواؤ) ایسا معاملہ جس کی وجہ سے صاحب معاملہ رات بھر غور و خوض اور سوچ بچار کرتا رہا ہو۔ انسان کے دل میں براجمان غم۔ اذا خفتُ بَيُّوتَ امرٍ عَضال: جب میں سخت معاملہ کے غم سے دہشت زدہ ہوتا ہوں۔

۲۔ بَاتَ - بَيْتًا الرجلُ: شادی کرنا ــــ الرجلَ: کی شادی کرنا۔

۳۔ بُيِّتَ الشيءُ: کا انداز کیا جانا۔

۴۔ بَيَّتَ الشيءَ: کو مسا کن بنانا ــــ البيتَ: گھر بنانا۔ البَيْت جمع بُيُوت و ابيات، و جمع الجمع بُيُوتَات و اَبَابِيت: (بعض کے نزدیک یہ آخری دونوں جمعیں اشراف کیلئے مخصوص ہیں) تصغیر: بُيَيْت: گھر، مکان، شرافت۔ کہا جاتا ہے: هو جاري بيتَ بيتَ: وہ میرا پڑوسی ہے، اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے۔ البيتُ العتيق اور البيتُ الحرام: کعبہ۔ بيتُ الرجل: آدمی کے اہل و عیال۔ بيتُ المَقْدِس اور البيتُ المُقَدَّس: یروشلم، قدس شریف۔ بيتُ المال: حکومت اسلامیہ کا خزانہ۔ بيتُ العنكبوت: مکڑی کا جالا۔ بيت الشعر: دو مصرعوں سے مرکب منظوم کلام۔ بيتُ القصيدة: قصیدہ کا چیدہ شعر یا شاعر کی غرض کو ظاہر کرنے والا شعر۔ المَبِيت: مسکن، شب باشی کی جگہ۔ البِيتُ والبِيتَة: خوراک، روزی۔ کہا جاتا ہے: لَهُ بِيتُ ليلةٍ: اس کے پاس صرف ایک رات کی خوراک ہے۔ المُبَيِّتَةُ من النساء: گھر اور شوہر والی عورت۔ المُسْبِيت: محتاج، فقیر۔

ⓒ بَاتَ - مَبِيتًا: رات گزارنا یا صرف کرنا، رات کی رات ٹھہرنا، ہوجانا ــــ في: (کسی صورت حال) میں ہونا، کوئی کام کرتا رہنا، پر قائم رہنا، پکا ہونا۔ بَيَّتَ ه: کیارے میں رات کو منصوبے باندھنا ــــ ه ل: کے خلاف کوئی برا منصوبہ بنانا، کے خلاف کوئی تدبیر کرنا، سازش کرنا ــــ ل: کے خلاف سازش کرنا ــــ ه: کو رات بھر کے لئے اپنے گھر میں رکھنا اور کھانا دینا۔ بَيَّتَ في الصف: طالب علم کا امتحان میں فیل ہوجانا۔ اَبَاتَ ه: کو رات بھر کیلئے گھر میں رکھنا اور کھانا دینا۔ بَيْت جمع بُيُوت: گھر، مکان، عمارت، خانہ بدوش کا خیمہ،

کمرہ، رہنے کا کمرہ، اپارٹمنٹ، فلیٹ، کیاری، خاندان، کنبہ، کیس، بکس، ڈبہ، ڈھکنا پوش، پوشش، نیام، میان، شعر جمع اَبْيَات۔ بيوتات: بڑے قابل مکانات، قابل عزت کنبے یا خاندان۔ بيتُ الإمْرَة: جہاز ران کی کپاس۔ اهل البيت: خاندان، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اهل البيوتات: اچھے قابل عزت خاندانوں کے لوگ۔ بُيُوتات تجارية: تجارتی ادارے۔ البيتُ الحرام: کعبہ۔ بيتُ الخلا و بيتُ الادب: طہارت خانہ فلش کا طہارت خانہ۔ بيتُ الداء: بیماری کی اصل یا صدر مقام۔ بيتٌ رِيفي: دیہاتی مکان۔ بيتُ القصيدة یا بيتُ القصيد: نظم کا بڑا یا بہت ضروری شعر۔ لب لباب، نچوڑ، ضروری بنیادی عنصر، کسی چیز کی کامیاب کوشش، نمایاں چیز، صحیح چیزبات وغیرہ۔ بيت لحم: ایک شہر کا نام جو فلسطین میں واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ۔ البيتُ المالِك: حکمران گھرانہ۔ بيتُ المال: خزانہ عامرہ۔ بَيْتِي: گھر کا، گھریلو، گھر کا بنا ہوا، اپنے ملک کی آب و ہوا کے عادی بنائے ہوئے (دوسرے ملکوں کے جانور)۔ بُوَيْت جمع بُوَيْتَات: چھوٹا سا مکان، چھوٹا سا خیمہ۔ بَتَّات جمع بَتَّاتون و بَتَّاتَة: خرچ دے کر کھانا کھانے والا (طالب علم)، اقامتی مدرسے کا (طالب علم)۔ بَيُّوت: باسی، پرانا۔ مَبِيت: رات بھر کا قیام، رات کے لئے پناہ گاہ۔ بائت: باسی، پرانا۔ بائت في الصف: طالب علم جسے سکول میں ترقی نہ ملی ہو۔ مُبَيِّت: سازشی، سازباز کرنے والا۔

بيج: بيجاما جمع بيجامات: رات کو سونے کا پاجامہ۔

ⓒ بيجاما و بيجامة: پائجامہ۔

باد: ۱۔ بَادَ - بَيْدًا و بَيَادًا و بُيُودًا و بَيْدُودَةً: ہلاک ہونا۔ اَبَادَه: کو ہلاک کرنا۔ البَيْداء جمع بِيد و بَيْدَوات: بیابان۔

۲۔ بادت الشمسُ بُيُودًا: سورج کا ڈوبنا۔

۳۔ بَيْدَ: پر ہمیشہ اَنّ اور اس کے معمول جملہ کی طرف مضاف ہو کر آتا ہے اور سوائے، مگر کے معنی دیتا ہے جیسے کہتے ہیں: فلانٌ كثيرُ المال بَيْدَ انّهُ بخيل: فلاں شخص بہت مال دار ہے مگر ہے بخیل۔ البَيَّادَة (ا ع): پیدل فوج واحد بَيَّادِي: پیدل (فوج کا) سپاہی۔

ⓒ بِيدَا غوجيا: بچوں کی تربیت اور تعلیم کا فن۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۵۔ بَیْذَرَ الحنطةَ: گیہوں کا ڈھیر لگانا۔ البَیْذَر (ز): خرمن، کھلیان۔

۶۔ البَیْذَق (ح): ایک شکاری پرندہ۔

○ بَیْدَ اَنَّ: اگرچہ، حالانکہ، تاہم لیکن مگر۔

○ بَیْداء: صحرا، بیابان، ریگستان، لق ودق صحراء۔

بَائِد: عارضی، آنی جانی، دم بھر کا، چندروزہ، فانی، ناپائدار، عارضی، دنیاوی، عرصہ حیات کا، زمانی، گزرا ہوا، گیا گزرا، رفت گزشت۔ مُبِید: تباہ کن، نیست و نابود کرنے والا جمع مُبِیدات: بیخ کنی یا استیصال کے ذریعے۔ مُبِیدَات حشریة: کیڑے مار دوائیاں۔

○ بَیْدَق (و بَیْذَق) جمع بَیَادِق: شطرنج کا پیادہ۔

بیذ: البیذق جمع بَیَاذِق: سفر کا رہنما، پیدل چلنے والا اور اسی سے ہے۔ بَیْذَقُ الشطرنج: پیادہ (شطرنج میں)۔

بیر: ۱۔ البَیْرَق جمع بَیَارِق: جھنڈا۔ البَیْرَق دار: جھنڈا بردار۔

۲۔ البَیْرَمُون و البارامون: نصرانیوں کا بعض عیدوں سے پہلے کا دن جیسے عید میلاد جس میں وہ اگلے دن آنے والی عید کے لئے روزے اور عبادتوں کے ذریعے تیاری کرتے ہیں۔

۳۔ بِیْرَة: جو کی شراب، بیئر۔

۴۔ بِیْرُوقَرَاطِیَّة: نوکر شاہی bureau cracy۔

○ بَیَّارَة جمع بَیَّارَات: آبپاشی پہیہ۔ وسیع قطعہ زمین جس میں چائے، روئی تمباکو، گنوں کی کاشت کی جاتی ہے۔

○ مَصْنَعُ البیرا: بیئر کا کارخانہ brewery۔

○ جبالُ البِیرِینَه: پائرینز کے پہاڑ۔

○ بیرو: پیرو (ایک ملک کا نام)۔

○ بِیْرُو جمع بیروات: دفتر، بیورو Bureau۔

○ بَیْرُوت: بیروت (لبنان کا دارالحکومت)۔ بَیْرُوتِی جمع بَوَارِتَه و بَیَارِتَه: بیروت کا باشندہ۔

○ بیروقراطی: نوکر شاہی ذہنیت کا، دفتری ذہنیت کا۔ بِیرُوقراطیة: نوکر شاہی، سرخ فیتہ، ضابطہ پرستی، غیر ضروری تاخیر، دفتری طریقے یا ذہنیت۔

بیز: البَیْزَار جمع بَیَازِرہ: پرندہ باز رکھنے والا، کاشتکار، ہل جلانے والا۔ البِیزَرَة: کاشتکاری، باز کی رکھوالی۔

○ بِیزَنْطِیا: ایک ملک کا نام۔ بِیزنطی: بازنطی باشندہ، بازنطی طرزِ تعمیر۔

○ بیسون: ارنا بھینسا۔

بیش: بَیَّشَ اللّٰهُ وجھهُ: اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنائے۔ اَبَاشَ الشجرةَ: درخت لگانا، درخت کی جڑ بٹھانا۔ البِیش جمع اَبْیَاش (ز): گڑھا جس میں پودا یا پنیری لگائی جاتی ہے (عام زبان میں)۔ (ن): ایک قسم کی زہریلی گھاس۔

بیص: البَیْص و البِیْص: تنگی، سختی۔ کہا جاتا ہے: وقعوا فی حَیْصَ بَیْصَ و حِیْصِ بِیصِ: وہ سختی اور تنگی میں پڑے۔

باض: ۱۔ بَاضَ - بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔

۲۔ بَاضَ - السحابُ: بادل کا برسنا۔

۳۔ بَاضَ - الحَرُّ: گرمی کا سخت اور تیز ہونا۔ بَیْضَةُ الحَرّ: گرمی کی سختی اور تیزی۔

۴۔ بَاضَ - فلاناً: پر سفیدی میں غالب ہونا۔ بَیَّضَهُ (فَتَبَیَّضَ): کو سفید کرنا۔ تَبَیَّضَ: سفید ہو جانا۔ اسی سے ہے: تَبْیِیضُ الکتابة: مسودہ کو صاف کر کے لکھنا۔ و تَبْیِیضُ الآنیةَ: برتن قلعی کرنا۔ کہتے ہیں: بَیَّضَ اللّٰهُ وَجْهَهُ: اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے۔ بَایَضَ: دن کی سفیدی میں سے کچھ لینا۔ ۔ہُ: پر سفیدی میں بڑھنا۔ اَبَاضَت المرأةُ: عورت کا گورے بچے جننا۔ اِبْیَضَّ و ابیاضَّ: سفید ہونا۔ البَیَاض: سفیدی۔ (ط): دودھ (ط) حرام کھانوں میں گوشت کے علاوہ کھانے، جو چیز سفید ہو۔ کہا جاتا ہے: بیاضُ العین و بیاضُ البیضة: آنکھ کی سفیدی، انڈے کی سفیدی کہا جاتا ہے: بیاضُ الجلد: بے بال چمڑا۔ بیاضُ الوجهِ: شہرت، نیک نامی۔ بیاضُ النهار: دن کی روشنی۔ بیاض الیوم: تمام دن۔ بیاضُ الارض: عمارت سے خالی زمین۔ بیاضُ البطن: گردہ کی چربی وغیرہ۔ کہتے ہیں: فلانٌ یلبس السوادَ و البیاضَ: فلاں شخص سیاہ و سفید پہنتا ہے اور کبھی سواد کو فساد کے لئے اور بیاض کو فلاح کے لئے مثال ٹھہراتے ہیں۔ الأَبْیَض مونث: بَیْضَاء جمع بِیض: سفید، تلوار۔ الموت الابیض: اچانک موت۔ الخیط الابیض: صبح کی پہلی شعاع۔ البِیض من اللیالی: چاندنی راتیں۔ الأیّام البِیض: ان راتوں کے دن۔ الأَبْیَضان: دودھ اور پانی یا دودھ اور چربی یا روٹی اور پانی۔ کہا جاتا ہے: ما رأیته منذ ابْیَضَین: میں نے اسکو دو ماہ یا دو دن سے نہیں دیکھا۔ هذا ابیضُ من ذاك کہنا [illegible]

بیاضاً ہونا چاہیے۔ الید البیضاء: نعمت، احسان۔ کہا جاتا ہے: اَتَیتُه فی بیضاء القیظ: میں اس کے پاس سخت گرمی میں آیا۔ کَلَّمتُه فما رَدَّ علَیَّ بیضاءَ ولا سوداءَ: میں نے اس سے گفتگو کی مگر اس نے جواب میں اچھا برا کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ البِیضان من الناس: گورے لوگ۔

۵۔ باضَ - بَیْضاً الطائرُ: پرندے کا انڈا دینا۔ صفت بَائِض مونث: بائِض جمع بَوَائِض۔ اسم مبالغہ: بَیُوض جمع بُیُض و بِیض۔ البَیْضَة جمع بَیْضَات اور بَیْض کی جمع بُیُوض: انڈا، خصیہ۔ بیضة الدیك: (مرغ کا انڈا) اس سے مراد ناممکن الحصول شے ہے یا اس کے جزء کے لئے جو ایک ہی بار پائی گئی ہو۔ البُیَیْضَة جمع بُیَیْضات (ع ا): مادہ عنصر برائے افزائش نسل۔ بَیُوض (ح): حیوانات جو انڈے کے ذریعے افزائش حاصل کرتے ہیں، یہ زیادہ تر دودھ دینے والے جانور نہیں ہوتے۔ المَبِیض (ع ا): بیضہ دان۔ البَیَّاضَة: بہت انڈے دینے والی۔

۶۔ بَایَضَهُ: سے کھل کر دل کی بات کہہ دینا۔

۷۔ اِبْتَاضَ: خود پہننا۔ البَیْضَة (ا ع): خود۔ (سر کی حفاظت کی ٹوپی)

۸۔ اِبتاضَ القومَ: قوم کو فنا کر دینا، قوم کے میدان میں گھس جانا۔ بیضةُ القوم: قوم کا میدان۔ —— البلدِ: شہر کا سب سے بڑا آدمی یعنی چودھری، گمنام نسب والا۔ ـ الخدر: لڑکی۔ ـ العُقر: آخری اولاد۔

○ باضَ - بَیْضاً: انڈے دینا۔ ـ ہ: انڈے دینا۔ —— ب: کسی جگہ ٹھہرنا، بود و باش اختیار کرنا، رہائش کرنا۔ باضَ بالمکان و فَرَّخَ: کسی جگہ پیدا ہونا اور بڑا ہونا، قدم جمانا اور طاعون پھیلانا۔ بَیَّضَ ہ: کو سفید کرنا، پر سفید رنگ کرنا، پر سفیدی کرنا، کا رنگ اڑانا، پر قلعی کرنا، کی صاف نقل تیار کرنا۔ بَیَّضَ وجهَهُ: کو بے قصور، بے گناہ ظاہر کرنا، کی بریت میں کچھ کہنا، کو بری الذمہ قرار دینا، کو بے گناہ ثابت کرنا، کو حق بجانب قرار دینا، کا جواز پیش کرنا، کا احترام کرنا۔ بَیَّضَ اللّٰهُ وجهَهُ: اللہ اسے خوش و خرم رکھے۔ لا یبیض من صحیفتِه: یہ اسے موافق روشنی میں پیش نہیں کرتا۔ تَبَیَّضَ: سفید ہو جانا۔ اِسْتَبْیَضَّ: سفید ہونا یا ہو جانا۔ بَیْض جمع بُیُوض: انڈے۔ بَیْضَه جمع بَیْضات: انڈا، خصیہ، خود، اہم حصہ، جوہر، چیز، شے، روح۔ بَیْضَة

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الدیلك: محال یا غیر معمولی چیز۔ فی بیضة النهار: دن دیہاڑے، دن کی روشنی میں۔ بَیْضَةُ الصیف: موسم گرما کا گرم ترین حصہ۔ بیضة الاسلام: اسلامی قلمرو یا عملداری یا ڈانڈ۔ الدفاع عن بیضة الدین یا عن بیضة الوطن: دین کا دفاع، ملک کا دفاع۔ بیضة الخدر: بیرونی دنیا سے الگ تھلگ رکھی ہوئی عورت، پاکدامن عزت دار عورت۔ بَیضی، بَیْضَوِی و بَیْضَاوِی: انڈے کی شکل کا۔ بُیَیْضَة و بُوَیْضَة جمع بویضات و بییضات: چھوٹا انڈا، بیضہ، ابتدائی شکل میں انڈا۔ بَیَاض: سفید، سفیدی، قلمی جمع بَیَاضَات: بنجر، غیر کاشت شدہ ویران، غیر آباد زمین، قلمی تحریر میں خالی جگہ، خالی جگہ، ایک خطرناک بیماری جس سے خون میں بہت زیادہ سفید خلیے پیدا ہو جاتے ہیں، لینن کتان کا کپڑا، جمع بَیَاضَات: کتان کی چیزیں، کتان کے کپڑے، دودھ، مکھن، انڈے۔ بَیَاضُ البیض: انڈے کی سفیدی۔ بیاضُ العین: آنکھ کا سفید حصہ۔ بیاض النهار: دن کی روشنی، دن کو دن کے دوران۔ بیاضَ یَومِهِ و سوادَ لَیْلِهِ: دن رات۔ بیاض الوجه: عمدہ سیرت، اچھی شہرت۔ سمك بیاض: دریائے نیل کی ایک مچھلی۔ علی بیاض: کورا، جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ البیضان: گوری نسل۔ الأبْیَض: انڈے کی سفیدی۔ ارضٌ بَیْضَاء: بنجر زمین، غیر مزروعہ زمین، اجاڑ، بیابان۔ ثَوْرَةٌ بَیْضَاء: پرامن اور بلا خونریزی انقلاب۔ الذهب الابیض: پلاٹینم۔ بالسلاح الابیض: تیر تلوار سے۔ صحیفتُهُ بَیْضَاء: وہ اچھی شہرت کا مالک ہے، وہ نیک کام ہے، وہ شریف کردار ہے۔ صُحُفٌ بَیْضَاء: شریف اور عظیم کام۔ اکْذُوبَةٌ بَیْضَاء: سفید جھوٹ۔ لیلةٌ بیضاء: رات جس میں نیند نہ آئے، رات جو بیداری میں گذری گئی ہو۔ الموتُ الابیضُ: طبعی موت۔ یدٌ بَیْضَاء: نیک رحم دل اور محسن ہاتھ، نیکی، احسان۔ مَبْیَض: رحم، بیضہ دان۔ تَبْیِیضَة: صاف نقل۔ ابیضاض: بیماری جس سے خون میں بہت زیادہ سفید خلیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بَائِض جمع بَوَائِض: انڈے دینے والا۔ مُبَیِّض جمع مُبَیِّضون: سفیدی کرنے والا، سفید کرنے والا، قلعی کرنے والا، نقل نویس، صاف نقل بنانے والا۔ مُبَیَّضَة: صاف نقل (fair copy)

باظ: بَاظَ - بَیْظًا: دبلا پتلا ہونے کے بعد موٹا ہونا۔

البیظ: چیونٹیوں کے انڈے۔

○ بَیْطَرَ: حیوانات کا علاج کرنا۔ - ہ: جانور کے نعل لگانا۔ بیطار: سلوتری، معالج حیوانات، نعلبند جمع بَیَاطِرة۔ بَیْطَرِی: بیطاری کے متعلق، علاج حیوانات کے متعلق۔ بَیْطَرَہ: علاج حیوانات، نعلبندی۔

باع: ا۔ بَاعَ - بَیْعًا و مَبِیعًا فلانًا کتابا او من فلانٍ کتابا: کو کتاب بیچنا، سے کتاب خریدنا۔ صفت: بائع جمع بَاعَة۔ صفت مفعولی: مَبِیع۔ اَبَاعَ الشیءَ: کو فروخت کے لئے پیش کرنا۔ اِبْتَاعَ الشیءَ: کو خریدنا۔ انباع الشیءُ: خرچ ہونا، فروخت ہونا۔ تَبَایَعَا: باہم خرید و فروخت کرنا۔ اِسْتَبَاعَ هُ الشیءَ: سے کچھ بکوانا۔ البَیْع (ت): خرید، فروخت (ضد) جیسے: بِعْتُهُ هذا الثوبَ: میں نے یہ کپڑا اسے فروخت کیا یا میں نے اس سے یہ کپڑا خریدا۔ البیاعة جمع بیاعات: بیچنے کا سامان، سامان فروختگی۔ البَیِّع و البَیَّاع: بیچنے والا، خریدنے والا۔

۲۔ بَایَعَ مُبَایَعَةً: سے باہم معاہدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: بَایَعُوه بالخلافة و بُویِعَ له بالخلافة: لوگوں نے اس کی خلافت پر بیعت کی، لوگوں نے اس کی خلافت کو مان لیا اور تسلیم کر لیا۔ البَیْعَة: عقد و پیمان۔ المبایعة بالخلافة: سرکردہ افراد کا اس شخص کا جسے وہ خلیفہ مقرر کریں ہاتھ پکڑ کر اس کو قبول کرنے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد۔

۳۔ البِیْعَة جمع بِیَع و بِیَعَات و بیعات: نصاری اور یہود کی عبادت گاہ، کلیسا، گرجا، یہودیوں کا عبادت خانہ۔

○ باعَ - بَیْعًا و مَبِیعا ہ ہ/ل ب: کو کوئی چیز فروخت کرنا کسی قیمت پر۔ بَایَعَهُ: سے معاہدہ کرنا، کو خراج عقیدت پیش کرنا، کو بطور فرمانروا یا رہنما تسلیم کرنا، کی فرمانبرداری، اطاعت و انقیاد کا عہد کرنا۔ اَبَاعَ ہ: کو برائے فروخت پیش کرنا۔ تَبَایَعَ: فروخت کی شرائط پر اتفاق کرنا، سودا کرنا، معاملہ کرنا۔ اِنْبَاعَ: فروخت ہونا، فروخت کے لئے ہونا۔ اِبْتَاعَ ہ من یا ابتاع ہ ہ: کو سے خریدنا یا سے کچھ خریدنا۔ لا ابتاعُ منه و لا ابیعه: میں اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ بَیْع جمع بُیُوع و بُیُوعات: فروخت۔ للبیع: برائے فروخت۔ بُیُوع یا بُیُوعات جَبْرِیَّة: جبری فروخت، نیلام کے ذریعے لازمی فروخت۔ بیعٌ بالجملة: تھوک فروخت۔

بَیْعٌ بالخِیَار: اختیاری یا انتخابی فروخت۔ بیع لآخر راغِبٍ: سب سے زیادہ بولی دینے والے کے نام فروخت۔ بَیْعَة: اتفاق، انتظام، کاروباری معاہدہ، سودا، تجارتی کاروبار، سودا، فروخت، خرید، خراج تحسین۔ بَیَّاع: سیلز مین، سوداگر، بیوپاری، کمشن ایجنٹ، تاجر، دوکاندار۔ مَبِیع: فروخت۔ مَبِیعَات: فروختگیاں (خصوصا شاک مارکیٹ میں)۔ مبایعة جمع مُبَایَعَات: معاہدہ طے کرنا، خراج تحسین، فرمانبرداری، اطاعت اور انقیاد کا عہد۔ ابتیاع: خرید۔ بَائِع جمع باعة: بیچنے والا، دکاندار، بیوپاری، سوداگر، سیلز مین۔ بائعة: فروخت کرنے والی۔ مَبِیع و مُبَاع: فروخت شدہ۔ مُبْتَاع: خریدنے والا، خریدار۔ بِیْعَة جمع بیعات و بِیَع: گرجا، یہودی معبد۔

باغ: بَاغَ یَبِیغُ بَیغًا و تَبَیَّغَ الدمُ: خون کا جوش مارنا۔

بیق: البِیقَة (ن) ایک قسم کی گھاس کا نام جو جانوروں کے چارہ کے کام آتی ہے۔

۲۔ بَیْقَرَ: تھکنا، ہلاک ہونا، سر جھکا کر جلدی جلدی چلنا، نامعلوم جگہ کی طرف جانا۔ — فی ماله: اپنے مال کو تیزی سے اڑا دینا۔ — الدارَ: گھر میں اترنا۔ الأَبَیْقَر: بے فیض آدمی۔

بیك: ا۔ البیك جمع بکوات: بعض کے نزدیک بیکات: ترکی الاصل لفظ بیک ہے۔ وزراء کی اولاد اور عوام میں ممتاز لوگوں اور ہر صاحب اثر و نفوذ کا لقب۔ فوج میں: لفٹنٹ کرنل، بحری کمانڈر، کیپٹن۔

۲۔ البیکار: پرکار۔

بیل: البَیْلَسَان و البَلَسَان (ن): ایک قسم کا درخت جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔

○ بیکویة: بے کا مرتبہ۔

○ بیکباشی: دیکھو بکباشی۔

○ بیکه: بنے ہوئے تاگے کا موٹا سوتی کپڑا۔

○ بیل: گولی۔ کرسی بیل: بال بیئرنگ ball-bearing۔

○ بَیْلَسان: سیاہ گوندنی کی قسم کے پھل اور خوشبودار سفید پھولوں کا چھوٹا درخت۔

بیم: البیمارِسْتان و المارِسْتان (طب): شفاخانہ، ہسپتال، اس کے لئے عربی لفظ مُستشفی ہے۔

بان: ا۔ بَانَ - بَیَانًا و تَبْیَانًا و تِبیانًا: واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ صفت: بَیِّن و بائن جمع اَبیناء و بُیَناء و اَبیان۔ بَیَّنَ الشیءُ: واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ — الشیءَ: کو ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ — الشجرُ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

درخت کا پتے لانا۔ اَبَانَ الشیءُ: واضح ہونا صفت: مُبین۔ کہا جاتا ہے: ضربه فابان راسه من جسده اس نے اُسے مار مار کر اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ ـــــ الشیءَ: کو واضح کرنا۔ تَبَیَّنَ الشیءُ: واضح ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو واضح کرنا، پر غور و تامل کرنا۔ اِستَبَانَ الشیءُ: واضح ہونا۔ ـــ الشیءَ: کی وضاحت چاہنا۔ البَیَان (مص): فصیح گفتگو جو ما فی الضمیر کو ظاہر کرے۔ دلالت فصاحت جس سے کوئی بات واضح ہو۔ اس سے ان من البیان لسحرا جادو بیان کی قسم سے ہے۔ البَیِّنَةَ جمع بَیِّنات (بَیِّن کا مونث): دلیل، حجت۔

۲۔ بَانَ - بَیْنًا و بُیُونًا و بَیْنُونَةً عنه: سے جدا ہونا۔ بَایَنَہ: کو چھوڑ کر جدا ہونا۔ اَبَانَ الشیءَ: کو کاٹنا، جدا کرنا۔ تَبَایَنَ الرجلان: ایک دوسرے کو چھوڑنا، ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ ـــ الشیئان: باہم متفاوت ہونا۔ البَیْن: جدائی، فساد، دشمنی۔ البِین جمع بُیُون: دو زمینوں کے درمیان کا فاصلہ، حد نظر تک زمین کا ٹکڑا، کونہ، گوشہ۔

۳۔ بَیَّنَ البنتَ: لڑکی کی شادی کرنا۔ البائِنة: دلہن کا جہیز۔ ذات البَیْن: نسب، قرابت، دوستی (کہا جاتا ہے: سعی فی اصلاحِ ذاتِ بینهم: اس نے ان کے معاملات کی اصلاح کے سلسلہ میں کوشش کی) وصل۔ کہا جاتا ہے: تَقَطَّعَ بینهما: ان کے میل ملاپ میں فصل واقع ہو گیا، ان کا آپس کا تعلق ٹوٹ گیا۔

۴۔ بینَ: ظرف بمعنی وسط درمیان۔ کہا جاتا ہے: بَینا او بینما نحن نضرب جسکا مفہوم یہ ہے: بینَ اوقات ضربنا: ہمارے مارنے کے اوقات کے درمیان گویا الف یا ما کو اوقات کے عوض میں لاتے ہیں، جو محذوف سمجھا جاتا ہے۔ بَیْنَ بَیْنَ: اچھی اور ردّی کے درمیان۔

۵۔ البِین جمع بُیُون: ہزار۔ البِینْبَاشی: ہزار فوجیوں کا افسر۔

۶۔ البیانو (مو): پیانو۔

○ بین. بَانَ - بَیَانًا: صاف، واضح ہونا یا ہو جانا، معلوم ہونا، ظاہر ہونا۔ ـــــ لِ: کے لئے صاف اور واضح ہونا۔ ـــــ بَینًا و بَینُونَةً عن: سے الگ ہونا جدا ہونا۔ بَیَّنَ ہ: کو واضح کرنا، ظاہر کرنا، عیاں کرنا، آشکارا کرنا، کا اعلان کرنا، کو بیان کرنا، کو دکھانا، کی وضاحت کرنا، پر روشنی ڈالنا۔ بایَنَہٗ: سے جدا ہونا، کو چھوڑ جانا، کو ترک کرنا۔ ـــ ہ/ ہ: سے اختلاف کرنا، سے مختلف ہونا۔ - ہ: کی تغلیط کرنا، تردید کرنا، کو رد کرنا، کے خلاف ہونا، سے متصادم ہونا، سے ٹکرانا، کے مطابق نہ ہونا، سے متضاد ہونا، کے خلاف ہونا۔ اَبَانَ ہ ل: پر کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا، سے کو صاف صاف بیان کرنا۔ ـــــ ہ من: کو سے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، میں امتیاز کرنا، فرق کرنا۔ ـــــ: صاف واضح ظاہر ہونا۔

تَبَیَّنَ لِ: کے لئے صاف ہونا، واضح ہونا، قابل فہم ہونا۔ ـــ: آخر میں ثابت ہونا، ظاہر ہونا، واضح ہونا، آخرکار ہونا۔ ـــــ من: سے نتیجہ نکلنا، سے واضح ہونا، سے صاف طور پر نمایاں ہونا۔ ـــــ ہ: کی تحقیق یا کے حقائق کا پتہ چلانے کا خواہاں ہونا، کے متعلق جاننے کی کوشش کرنا، ـــ ہ/ ہ: کا تنقیدی جائزہ لینا۔ ـــ ہ: کو بغور دیکھنا، کے متعلق سچ حاصل کرنا، کو صاف طور پر دیکھنا، معلوم کرنا، دریافت کرنا، پانا۔ ـــ ہ من: میں فرق کرنا، امتیاز کرنا۔ تَبَایَنَ: مختلف ہونا، مخالف ہونا۔ ـــ بین: دو رقموں یا حدوں میں اختلاف رکھنا، بدلتے رہنا۔ اِستَبَانَ: واضح ہونا، صاف ہونا، ظاہر ہونا۔ ـــــ ہ: کو دیکھنا جاننا، سمجھ لینا۔ اَستبینَ من: سے واضح طور پر نتیجہ نکلنا، سے صاف طور پر نظر آنا۔ بَیْـــن: جدائی، تقسیم، وقفہ، اختلاف۔ ذاتُ البَیـــن: دشمنی، نااتفاقی، ناموافقت، بے آہنگی۔ فی البین: اس دوران میں، اس اثنا میں۔ بَیْنَ یا فیما بین: درمیان۔ بین ...... و -: کسی حد تک، تھوڑا سا۔ کان القوم بین صامت و متکلم: ہجوم خاموش رہنے والوں اور باتیں کرنے والوں میں بٹا ہوا تھا۔ ـــ بَینَ یَدَیہِ: کے سامنے، کے آگے، کی موجودگی میں، کی حاضری میں، اسکے ساتھ، اس پر، اس کے قبضہ میں۔ لاسلاحَ بَین یدیه: اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، وہ غیر مسلح ہے۔ فیما بینَ ذلك: اس دوران میں، اس اثناء میں۔ فیما بینی و بین نفسی: اپنے دل میں، اپنے جی میں، دل میں۔ بین ذراعیه: اس کے بازوؤں میں۔ مِن بینهم: ان میں سے۔ بین: وقت و آخر۔ بینَ فَترةٍ و اُخری: بعض اوقات، وقتاً فوقتاً۔ بَیانُ: جمع بَیانات صفائی، وضاحت، صراحت، سچائی، راستی، کھلا ہوا ہونا، واضح ہونا، بیان، اعلان، اظہار، ظہور، انکشاف، تجلی، تشریح، توضیح، تفسیر، شرح، اطلاع؛ خبر، (سرکاری) رپورٹ (سرکاری) بیان، خلاصہ تحریر، بیان مجمل، فہرست مضامین، فہرست، جوش بیانی، طلاقت، فصاحت۔ علمُ البیان: علم انشاء، فن خطابت، بلاغت، معانی بیان۔ عطف البیان: وضاحت کن، بدل کے طور پر استعمال۔ بَیَانِي: تشریحی، واضح کرنے والا، مرصع، جذباتی۔ بَیِّنة جمع بَیِّنات: صاف ثبوت، ناقابل اعتراض گواہی، شہادت جس میں بحث کی گنجائش نہ ہو، دستاویز جو شہادت کا کام دے۔ بینة ظَرفِیة: جزئیات یا قرائن پر مبنی گواہی واقعاتی شہادت۔ علی بَیِّنة: جیسا کہ ثابت ہوا۔ کان علی بینة من: سے پوری طرح آگاہ ہونا، سے اچھی طرح باخبر یا بڑا باخبر ہونا، کے متعلق تازہ ترین معلومات پر مشتمل یا تازہ ترین معلومات کا حامل ہونا۔ اَبْیَن: زیادہ صاف، زیادہ واضح، زیادہ صریح۔ تِبیَان: بیان، تشریح، دلیل، حجت، مظاہرہ، مجاہرہ، اظہار۔ تبیین و اِبانَة: بیان، تشریح، اظہار، مظاہرہ، تمثیل۔ تَبَایُن: فرق، اختلاف، مختلف ہونا، عدم مشابہت، تفاوت۔

تَبَایُنی: مختلف، غیر متشابہ، متفاوت۔ بائِن: صاف، واضح، ظاہر، آخری، فیصلہ کن، اٹل، ناقابل تنسیخ (طلاق)، بہت طویل، بہت اونچا۔ بائِنُ الطول: بہت (لمبا) غیر معمولی لمبا (آدمی)۔ بائنة: دلہن کا جہیز۔ مَبْیُونَة: فاصلہ۔ مُبِین: صاف، واضح، ظاہر۔ الکتابُ المبین: قرآن مجید۔ مُتَبایِن: مختلف، غیر مشابہ، اختلافی، اختلاف ظاہر کرنے والا، فرق رکھنے والا، رنگ برنگ، گوناگوں۔

باہ: بَاهَ یَبَاهُ بَیْهًا لہ: سے واقف ہونا، کو جاننا، مطلع ہونا۔

بیو: البُیُورْدی و البُیُورُلْدِی: سلطان یا وزیر کا حکم یا انکا فرمان (ترکی فعل ہے، جس کا معنی: حکم دیا گیا ہے یا حکم صادر ہوا ہے۔ اس کی عربی التقلید ہے۔

بیّ: بَیَّاكَ اللّٰه: اللہ تعالیٰ تجھے مالک بنائے یا تیرا درجہ بلند کرے۔ کہا جاتا ہے: ھیّ بن بیّ یا ھیّان بن بیّان: گمنام، جس کا اور جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ لستُ ادری ایُّ ھی بن بیّ ھو: میں نہیں جانتا وہ کون ہے؟

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ت

ت: تلفظ تاء جمع تاءات۔ حروف تہجی کا تیسرا حرف۔ مونث ہے۔ نسبت کے لئے تَانی و تَاوِی و تَیَوی جیسے: قصیدة تانيّة و تاوِيّه و تَيَوِيّة۔ حروف ابجد میں ۴۰۰ کے برابر ہے۔ متکلم اور مخاطب کے لئے فعل کے آخر میں آتا ہے جیسے: قمتُ و قمتَ و قمتِ و قُمتما و قُمتُم و قمتنَّ۔ تانیث کیلئے حرف کے طور پر آتا ہے جیسے: قائمة اور ضربَتْ میں۔ جنس کی واحد کی تمیز کیلئے بھی آتا ہے جیسے شجرة میں جو شجر کا واحد ہے۔ نیز مبالغہ کے لئے بھی آتا ہے جیسے فهَّامَة میں۔ قسم کے لئے حرف جر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اسم کو جر دیتا ہے جیسے تاللّٰہِ میں۔ کبھی اس کے سوا کو بھی جر دیتا ہے جیسے تَربّی میں۔ زائد بھی ہوتا ہے اور منتھی الجموع کے صیغہ سے یا تو نسب پر دلالت کے لئے جیسے مهالِبة میں جو مهلَّبی منسوب کی جمع ہے۔ یا محذوف حرف کے بدلہ کیلئے جیسے: زنادقة میں جو زندیق کی جمع ہے۔ علاوہ ازیں افعال کے شروع اور وسط میں بھی زیادہ کیا جاتا ہے جیسے: تقاتل و اقتتل میں۔ اسماء کے آخر میں بھی آتا ہے جیسے ملکوت کی تاء کی طرح۔ کلمہ کے اوّل میں محذوف حرف تاء زائدہ کی جگہ بھی آتا ہے: جیسے عِظَة میں جو اصل میں وعظ ہے۔ یا اس کے آخر کی جگہ جیسے شَفَةٌ جس کی اصل شَفَهٌ ہے۔

تا: تا جمع اولاء، مثنّی: تان۔ اسم ہے۔ جس کے ذریعے مونث مفرد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس پر هاء تنبیہ داخل ہوتی ہے: هاتا و هاتان و هؤلا۔ مخاطبہ میں کاف کے ساتھ لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں: تاكَ و تلكَ و تِيكَ و تِلكَ۔ اس میں تاء کی فتح ردی لغت ہے۔ مثنّی کے لئے: تانِكَ و تانّكَ۔ جمع کیلئے: اُولَئِكَ و اُولاكَ و اُولالِكَ۔ تلك کے سوا ان حالات میں ھاء تنبیہ بھی داخل ہوتی ہے۔

تأب: ۱۔ التَّابوت جمع تَوابِيت: لکڑی کا صندوق۔ اسی سے ہے۔ تابوتُ الميِّت۔

۲۔ تابیر (ح): امریکا اور استوائی ایشیا کے مرطوب جنگلوں میں رہنے والا ایک جانور۔ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور گائے کے گوشت کی طرح ہوتا ہے۔

○ ت: ٹیلیفون کا مخفف۔

تَ: قسم کے شروع میں آتا ہے جیسے تَاللّٰهِ: خدا کی قسم۔

تَاء: حرف ت کا نام۔

○ تَابُوت جمع تَوَابِيت: صندوق، کیس case، پیٹی یا لوہے کی پیٹی، لکڑی کا صندوق، خزانے کا صندوق، زیور کا ڈبہ، چاندی سونے کی ڈبیا، صندوقچہ، تابوت، مردہ کو دفن کرنے کا صندوق۔ تابوتُ العهد: لکڑی کا صندوق جس میں توریت کی لوحیں محفوظ تھیں۔ تابوتُ السَاقِية: پانی نکالنے کا پہیہ۔ تَابيُوكا: ایک درخت جس سے سوجی نکالی جاتی ہے۔

تاتا: تَأتَأ تأتأةً و تأتاءً: تاء کی ادائیگی میں تتلانا صفت: تَأتَاء۔ - الطفلُ: بچے کا چلنا۔ - المُحارِبُ: جنگ میں بہادر کا اکڑ کر چلنا۔

○ تَأتَأ: خوف یا دہشت سے ہکلانا، تتلانا، رک رک کر بولنا۔

تار: تَأرَ - تأرًا ہ: کوجھڑکنا۔ أتْأرَ إتْآراً ہ بالعصا: کو لاٹھی مارنا۔ _ نظَرَہُ اليه: کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ التارة جمع تارات و تِير و تِئَر: ایک مرتبہ، ایک دفعہ۔ کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ ترک کر دیا گیا کہا جاتا ہے: [illegible] تارةً [illegible] میں نے ایک دفعہ یہ کیا اور ایک دفعہ وہ کیا۔ تارةً بعد تارة: بار بار۔

○ أتأرَ البصره/ إلى: کو تکنا، گھورنا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا۔

تاز: تَأزَ - تأزًا الجرحُ: زخم کا مندمل ہونا۔ _ القومُ في الحرب: لڑائی میں لوگوں کا قریب قریب ہونا۔

○ تازہ = طازَة: تازہ، نیا، نرم۔

تنق: تَئِقَ - تَأَقًا الاناءُ: برتن کا بھرنا۔ ـــ الرجلُ: غصہ سے بھر جانا، غضبناک ہونا۔ صفت: تَئِق و مِتآق۔ اس سے ضرب المثل ہے: أنا تَئِقٌ و أنتَ مَئِقٌ فكيف نتفق: میں غضبناک ہوں اور تو گھبرایا ہوا ہے پھر ہم کس طرح متفق ہوں؟ (دو مختلف عادتوں والے لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔) أتْأَقَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ التَأَقة: غصہ کی شدت۔ بدی کی طرف تیزی سے بڑھنا۔

تأم: ۱۔ أتأمتِ المرأةُ: عورت کا جڑواں اولاد جننا صفت: مُتْئِمٌ۔ اگر یہ اسکی عادت ہو یعنی ہر بار جڑواں بچے جنے تو اسے مِتْآم کہتے ہیں جس کی جمع مَتَائِيم ہے۔ تَاءَمَ اخاه: بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہونا صفت: تِئْمُهُ و تؤمُهُ و تَئِيمُهُ۔ التَوْأم جمع تَوَائِم و تُؤَام مونث تَوْأمَة: جڑواں۔ کہا جاتا ہے: هذا توأمُ هذا و هذه توأمةُ هذه: یہ اس کا جڑواں ہے اور یہ اس کی جڑواں ہے۔ جب دونوں جمع ہوں تو ان کو تَوْأمان و تَوْأم کہا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: هماز و جان و زوج۔

۲۔ أتْأَمَ الثوبَ: کپڑے کو دوہرے دھاگے سے بننا۔ صفت مفعولی: مِتْأم۔

۳۔ التَوْأم: جوئے کے تیروں میں سے ایک تیر۔ تَوَائِمُ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

النحوم او اللؤلؤ: گنجان ستارے یا موتی۔
○ التَامِیز: دریائے ٹھیمز (thethames)
○ تای: چائے۔ تای اَحْمَر: بلیک ٹی۔
○ تابُور و تاپیر جمع تابورات و تاپیرات: خواتین کا سلا ہوا سوٹ۔

تبّ: ۱۔ تَبَّ ۔ تبًّا الشیءَ: کو کاٹنا۔
۲۔ تَبَّ ۔ تبًّا و تَبَبًا و تَبَابًا و تَبِیْبًا: ہلاک ہونا۔ کہا جاتا ہے: تبًّا لہ: اللہ تعالیٰ خسران اور ہلاکت اس کے لئے لازم کردے۔ تبَّتْ یداہ: خدا کرے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ــــ فلانًا: کو ہلاک کرنا۔ تَبَّبَ فلانًا: سے تبًّالك کہنا، کو ہلاک کرنا۔ التَبَابُ: نقصان، ہلاکت۔ التِبَّة: سخت حالت۔
۳۔ أتَبَّ ہ: کو کمزور کرنا۔ اِسْتَتَبَّ الرجلُ: کمزور ہونا، عاجز ہونا۔ التَاب جمع أتْبَاب: بوڑھا اور کمزور آدمی کہا جاتا ہے: کنتُ شاباً فصرتُ تابًا: میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوگیا۔ التَاب: گی۔
۴۔ اِسْتَتَبَّ الطریقُ: راستہ کا بہت چلنے والا ہونا۔ ــــ الامرُ: کام کا درست ہونا، ٹھیک ہونا، درستی کی حالت میں جاری رہنا۔
۵۔ تُبِّبَ الرجل: بوڑھا ہونا۔
○ تَبَّ ۔ تبًّا و تبًّا و تَبَابًا: ہلاک ہونا، برباد ہونا، تباہ ہونا۔ اِسْتَتَبَّ: مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، جمنا، قائم ہونا، باقاعدہ ہونا، باترتیب ہونا، حسب معمول ہونا، خوب ترقی کرنا، آگے بڑھنا یا جاری ہونا۔ اسْتَتَبَّ لہ الامرُ: کے لئے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونا۔ تبًّا لہ: خدا کرے وہ ہلاک ہو، اسے تباہی آئے۔ اِسْتِتْبَاب: حسب معمول ہونا، باقاعدگی، طبعی ہونا، یکسانیت، باضابطگی، حسن ترتیب۔ ترتیب، نظم، پائداری، استحکام، موافق ارتقا یا رفتار۔
○ التِبْت: تبت (ایک ملک کا نام)۔

تبر: ۱۔ تَبِرَ ۔ تبرًا: ہلاک ہونا۔ تَبَرَ ۔ تبرًا ہ: کو ہلاک کرنا، کو توڑنا۔ تَبَّرَہُ: کو ہلاک کرنا، برباد کرنا۔ التَبَار: ہلاکت۔ المَتْبُور: ہلاک ہونے والا۔
۲۔ أتْبَرَ عن الأمرِ: کام سے پیچھے ہٹنا، رکنا۔
۳۔ التِبْر واحد تِبْرَة: سونے کا ڈھیلا جو نہ ڈھلا ہوا ہو نہ سکہ کی شکل میں ہو بلکہ کان کی مٹی میں ہو۔ ــ المَتْبُور: ناقص۔ التابُور جمع تَوَابِیر: فوجی دستہ (ترکی لفظ) التِبرِیَة (طب): بالوں کی جڑوں کی بھوسی۔
○ تَبَرَ ۔ تَبْرًا ہ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا، نیست و نابود کرنا۔ تِبْر: خادم دھات، سونے کا چورا، سونے کے ڈھیلے، کچی دھات فلز۔ تَبَار: تباہی، بربادی۔ تِبرِیَة: بفا، سر کی خشکی۔
○ تَبْرِیز: تبریز (شمال مغربی ایران کا شہر، آذر بائیجان صوبے کا دار الحکومت)۔

تبع: ۱۔ تَبِعَ ۔ تَبَعًا و تَبَاعًا و تَبَاعَةً و اِتَّبَعَ ہ: کے پیچھے چلنا، کے ساتھ جانا، کا مطیع و فرمانبردار ہونا۔ صفت: تَبَع (واحد اور جمع دونوں کے لئے) جمع أتباع و تَابِع جمع تبَع و تَبَعَة و تَوَابِع و تُبَّاع۔ ــــ الشیءَ: کے نشان پر چلنا۔ تَبَّعَ ہ: کی پیروی کرنا۔ ــــ بہ کذا: کو سے لاحق کرنا۔ تَابَعَ بین الاعمال: کام لگاتار کرنا۔ ــــ الحدیثَ: بات اچھی طرح بیان کرنا۔ ــــ العملَ: کو مستحکم کرنا، میں ماہر ہونا۔ ــــ فلانا علی الامر: سے کام پر موافقت کرنا۔ کہا جاتا ہے: تابعنی بما لہ عندی: اس نے مجھ سے اپنی ان چیزوں کا مطالبہ کیا جو میرے پاس تھیں۔ اَتْبَعَ ہ: کی پیروی کرنا، سے جا ملنا۔ ــــ ہ کذا: کو سے لاحق کرنا۔ تتابَعَتِ الاخبارُ: خبروں کا ایک دوسرے کے بعد آنا۔ تَتَبَّعَ الأمرَ: دیر تک کسی کام کی تلاش و جستجو کرنا۔ کہا جاتا ہے: تتبعتُ احوالہُ: میں اس کے احوال کی ٹوہ میں لگا رہا۔ اِسْتَتْبَعَہُ: کو کے پیچھے چلنے کے لئے کہنا، کو کے پیچھے چلانا۔ التَابِع: کے پیچھے چلنے والا، خادم۔ التابع او الدلیل لمقدار متحول: وہ مقدار جس کی قیمت تغیر پذیر چیز کی قیمت کے تعین سے متعین کی جائے۔ مربع کی مساحت جو اسکے ضلع کے تابع ہو اور ضلع معلوم ہونے پر متعین کی جائے۔ تابع متزاید: وہ تابع جو تغیر پذیر کے بڑھنے سے بڑھے اور کم ہونے سے کم ہو۔ تابع متناقص: وہ تابع جو تغیر پذیر چیز کی کمی سے بڑھے اور اس کے زیادہ ہونے سے کم ہو۔ تابع دائری او مثلثی: تغیر پذیر چیز کا تابع جو قوس الدائرہ کہلاتا ہے، سایہ۔ التابعة: خادم۔ التِبْع: تابع۔ التِبِع: بہت تابعداری کرنے والا۔ التِبعة جمع تِبعات و التِباعہ جمع تِباعات: ذمہ داری نتیجہ، انجام معلول۔ اس کا استعمال شر میں زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے: لھذا الفعل تبعة: اس کام سے برائی اور نقصان پہنچے گا۔ التَبِیع جمع تِبَاع و تَبَائِع: مددگار، پیروی کرنے والا۔ التِبَاع: تابع کا مصدر۔ کبھی صفت بن آتا ہے۔ جیسے اس قول میں: وشھدنا ھُنَّ ایامًا تِباعًا: ہم نے انہیں کئی دن لگاتار دیکھا۔ التُبَّع جمع تبابیع: ... ایک لفظ کا تابع جو پہلے لفظ کا ہموزن ہو اور معنی میں قوت پیدا کرے۔ جیسے کثیر بثیر او خبیث نبیث: بہت بہت، خبیث ہی خبیث۔ التَابِعِی: تابع اور تابعہ سے نسبت۔ شرع اسلامی میں وہ مسلمان جس نے رسول اللہ کے صحابہ سے ملاقات کی ہو اور مسلمان فوت ہوا ہو۔ صحابی وہ مسلمان جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور آپ کی صحبت میں زندہ رہا ہو۔
۲۔ التَابِع: آسیب، بھوت پریت، بدروح۔ التَابِعة: مادہ آسیب، بھوت پریت، بدروح۔ التِبْع: عاشق کہا جاتا ہے: ھو تِبْعُ الکرمِ: وہ فیاضی کا عاشق و دلدادہ ہے۔ التُبَّع جمع تَبَابِیع: شہد کی بڑی مکھی جمع التبابعه: یمن کے بادشاہوں کا لقب۔
○ تَبِعَ ۔ تَبَعًا و تَبَاعَة ہ/ ہ: کی پیروی کرنا، کے پیچھے آنا یا جانا، کا پیچھا کرنا، کی تابعداری کرنا، کا اتباع کرنا، نشانات دیکھ کر چلنا، کے پیچھے چلنا، ــــ ہ: کا تعاقب کرنا، کو مدنظر رکھنا، کے در پے ہونا، کا اتباع کرنا، سے چپکنا، چسپاں رہنا، پر عمل کرنا، پر عمل پیرا ہونا، (سڑک) سے جانا، سڑک یا راستہ سے آغاز کرنا، سے متعلق ہونا، کی ملک ہونا، کارکن یا فرد ہونا۔ ــــ ہ: کا ماتحت ہونا، سے لگاؤ ہونا، کے ماتحت ہونا۔ تَبِعَ الدروسَ: کلاسوں میں باقاعدگی سے حاضر ہونا۔ تَابَعَ ہ/ ہ: کی پیروی کرنا، کی نئی صورت حال پر نگاہ رکھنا، کو یاد رکھنا۔ ــــ ہ علی: کسی معاملہ میں کسی سے متفق ہونا۔ ــــ ہ/علی: سے متفق ہونا، ہم آہنگ ہونا۔ ــ ہ/ ہ: کا تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، کے بارے میں مزید تجسس سے کام لینا، ــ ہ: کو جاری رکھنا۔ سیرَہُ: اپنا سفر جاری رکھنا۔ ــــ ہ: پر جمے رہنا، کو جاری رکھنا۔ اتبع: (وقت اور رتبہ وغیرہ میں) جانشینی کا سبب ہونا۔ ــ ہ ہ: کو کی کمان یا اختیار کے تحت رکھنا، کو کا ماتحت بنانا۔ ــــ ہ ہ: کو سے کمتر قرار دینا۔ تتبع ہ: کو سمجھنا (خصوصاً موضوع، نئی صورت حال وغیرہ) کو نظر میں رکھنا، کا مطالعہ کرنا، ــــ ہ/ ہ: کا تعاقب کرنا، کا کھوج لگانا، کا پیچھا کرنا۔ ہ: کا سراغ لگانا۔ ــــ ہ ہ: کو کا ماتحت بنانا۔ تتابَعَ: لگاتار ہونا، مسلسل ہونا، پے در پے ہونا، پے در پے ہونا یا آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا۔ میں توقف تسلسل قائم کرنا۔ اِتَّبَعَ ہ/ ہ: کے پیچھے آنا، کے بعد میں آنا، کا جانشین ہونا۔ ــ ہ ب: کو کے بعد لانا۔ ــ ہ: کے خلاف قانونی کارروائی کرنا، پر مقدمہ چلانا، کے خلاف استغاثہ دائر کرنا۔ ــــ ہ: کی پیروی کرنا، کو بجا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لانا، پرالتفات کرنا، دھیان کرنا، توجہ کرنا، کا لحاظ کرنا، کا پاس کرنا، کو ذہن میں رکھنا، کو حاصل کرنے کیلئے جدوجہد کرنا، کا جائزہ لینا، کی تحقیقات کرنا، کا مطالعہ کرنا۔ اتَّبَعَ علی: کسی چیز خصوصاً کسی خیال وغیرہ کے پیرو یا حمایتی رکھنا۔ اِتَّبَعَ سیاسة: کسی پالیسی کو مدنظر یا جاری رکھنا۔ اِتَّبَعَ یمینہ: دائیں ہاتھ رہنا۔ اِسْتَتْبَعَ ہ ہ: کو کے پیچھے چلنے کے لئے کہنا، کو کے پیچھے چلانا۔ ـ ہ: کو بہکانا، ورغلانا، گمراہ کرنا۔ ـ ہ: کا لازم یا قدرتی نتیجہ ہونا، کا باعث ہونا، کی صورت پیدا کرنا۔ ـ ہ: کو اپنا ماتحت بنانا، تابع فرمان بنانا۔

تبع: جانشینی، کے بعد ہونا یا آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا یا ہونا، ماتحتی، انقیاد، اطاعت، تابعداری، انحصار، حالی موالی، نوکر چاکر، ملازمین، مرید، شاگرد، چیلا، پیرو، جانشین، مصاحب تابع، کم درجہ کا، کم حیثیت کا، معاون، مددگار۔ بالتبع: یکے بعد دیگرے، پے در پے، لگاتار، تسلسل کے ساتھ، سلسلہ وار۔ تَبَعًا لِ: کے مطابق، کی تعمیل میں، پر عمل کرتے ہوئے، کی وجہ سے، کے باعث، کے نتیجہ میں، نتیجۃً جمع أَتْبَاع: پیرو، پیروکار، مرید، شاگرد، چیلا، ساتھی، حامی، حمایتی، وابستہ، وابستہ دامن، پکا حامی، کٹر، شہری، باشندہ، رعیت، متعلق، متعلقہ، ماجرا (ضمنی) واقعہ۔ عُقُوبَةٌ تبعیة: ہنگامی سزا۔ تَبِعَة جمع تَبِعات: نتیجہ، ذمہ داری، فرض، منصبی۔ اَلْقَی التبعةَ علی: کو ذمہ دار بنانا۔ تَبِیع جمع تِباع: ملحقہ، زائد، مستلزم، منسلکہ جمع تَبائع: پیرو، حامی، کٹر، پکا حامی، مصاحب، مددگار، مدد، ہاتھ بٹانے والا، معاون، خدمت گزار، خدمت گار، حاشیہ بردار، حاضر رہنے والا، شاگرد، چیلا، مرید، نوکر، خادم۔ تَبَعِیَة جمع تبعیات ماتحتی، محکومی، تسلط، تابعداری، انحصار، شہریت، قومیت۔ بالتبعیة: آگے چل کر، بعد میں، بعد ازاں، اس لئے، اس سبب سے، اس وجہ سے، لہٰذا، چنانچہ اس واسطے، پس، اندریں حال۔ تِباعًا: ایک دوسرے کے بعد، یکے بعد دیگرے، پے در پے، ایک ایک کر کے۔ مُتَابَعَة: پیچھا کرنا، تعاقب، تلاش، جستجو، پیروی کرنا، مدنظر رکھنا، استغاثہ، قانونی کارروائی، فوجداری مقدمہ، تسلسل، اجراء، استمرار۔ اِتْبَاع (گرامر) کسی لفظ کو دہرا کر اور اس کے حرف صحیح کی آواز تبدیل کر کے زور دار بنانا جیسے کثیر بثیر۔ تَتَبُّع (دلیل، نئی صورت حال وغیرہ کو) نظر میں رکھنا یا غور سے سننا، جستجو، تعاقب، استغاثہ، جانشینی، رفتار، روش۔ التَّتَبُّع التاریخی: تاریخی روش یا سلسلہ۔ تتبعات عدلیة: قانونی کارروائی، استغاثہ۔ اِتِّبَاع: پیچھا کرنا، تعاقب، تابعداری کرنا، اتباع کرنا، کسی پالیسی کو مدنظر رکھنا (سے) وابستگی (کی) پیروی، (کی) تعمیل، (کی) پابندی، (پر) عمل۔ اِتِّبَاعًا لِ: کے مطابق، پر عمل کرتے ہوئے، کی پابندی میں، (کی) تعمیل میں، (کی) اطاعت میں، کی مطابقت میں، کے موافق۔ اِتِّبَاعِی: ٹکسالی، اعلیٰ درجہ کا معیاری، اونچا، مستند۔ اِتِّبَاعِیَة: اعلیٰ درجہ کے ادب اور لٹریچر کا اسلوب اور اس کے اصول۔ تَابِع جمع تَبَعَة و تُبَّاع: اگلا، ذیلی، ذیل کا، آنے والا، بعد میں آنے والا، بعد کا، بعد میں آنے والا، ماتحت، ضمنی، زائد، مددگار، وابستہ ماتحت، زیر حکم، تابع، محتاج، کمتر، کم درجہ کا، دوسرے درجے کا، تابع، ثانوی۔ ـ ل: کا ماتحت، کے تحت، سے متعلق، کسی کے اختیار یا صلاحیت کا محکوم، کا حامی، حمایتی، پیرو، طرف دار یا ہوا خواہ، سے وابستہ، سے وابستہ دامن، کا تابع۔ (جمع أَتْبَاع): حامی، حمایتی، پیرو، طرف دار، ہوا خواہ، وابستہ، وابستہ دامن، پیروکار، پکا حامی، کٹر، محکوم، شہری، باشندہ، ماتحت، خادم، ہر کام کرنے والا ملازم، (جمع توابع) تتمہ: ضمیمہ، اضافہ، قابل اضافہ چیز، کمی پوری کرنے کے لئے بڑھائی جانے والی چیز، مقدار جس کی قیمت دوسری چیزوں کی بدلتی قیمتوں پر منحصر ہو (ریاضیات میں)۔ الدُّوَل التَابِعَة: ماتحت ملک۔ تَابِعَة جمع تَوَابِع: خادمہ، نوکرانی، جنی، گھر کا ساز و سامان، ماتحتی، تابعداری، انحصار، نتیجہ، حاصل، انجام، اثر، ذمہ داری، جمع توابع، محکوم علاقے، ماتحت ممالک۔ زیرنگیں ممالک۔ (الدُّوَلُ التَوابِعُ)۔ تَابِعِیَة قومیت، شہریت۔ مَتْبُوع: جس کی خدمت کی جائے، رہنما، مالک۔ ـ ب: جس کے پیچھے کوئی آئے، جس کا کوئی پیچھا کرے۔ مُتَتَابِع: مسلسل پیہم، متواتر، سلسلہ وار، لگاتار۔ مُتَّبَع (قاعدہ وغیرہ) جس پر عمل کیا جائے، جس پر عمل پیرا ہوا جائے، (رسم) جسے منایا جائے (سڑک، راستہ) جس پر سفر کیا جائے، جس سے جایا جائے۔

تبغ ۱۔ التُّبُغ (ن) تمباکو۔

۲۔ تَبْغِیَّة (ن) ایک پھولدار پودا۔

○ تِبْغ جمع تُبُوغ تمباکو۔

تبل ۱۔ تَبَلَ ـ تَبْلًا و اَتْبَلَ ہ الحبُّ او الدهرُ: محبت یا زمانے کا کسی کو بیمار کرنا ... کی عقل زائل کرنا، صفت مفعول: مَتْبول و تَبِیل۔

۲۔ تَبَّلَ و تَابَلَ و تَوْبَلَ الطعامَ: کھانے میں مسالہ ڈالنا۔ التَّابَل والتَّابِل والتَّابُل جمع توابِل: مسالہ، کھانے کو مزیدار بنانے والی چیزیں، جیسے کالی مرچ زیرہ وغیرہ۔ التَّبَّال: مسالہ والا، مسالہ بیچنے والا۔

۳۔ التَّبْل جمع أَتْبَال و تُبُول (مص): کینہ، دشمنی۔ کہا جاتا ہے بینهما تَبْلٌ ان دونوں میں کینہ و عداوت ہے۔ التُّوبال من النحاس و الحدید: تانبے اور لوہے کے ذرات جو کوٹنے پر گریں۔

○ تَبَلَ ـ تَبْلًا ہ: (محبت کا) کسی کو بیمار کر دینا، ضائع کرنا۔ تَبَّلَ و تَابَلَ و تَوْبَلَ ہ: کو مسالہ دار بنانا، چٹپٹا بنانا۔ تَابَل و تَابِل جمع تَوَابِل: کشنیز، دھنیا، مسالہ، گرم مسالہ، چٹنی، اچار، نمک مرچ، چاشنی۔ تَبُّولہ: ایک قسم کی سلاد۔ مَتْبُول: (محبت کی وجہ سے) بیمار، کمزور، پامال اور ضائع۔ مُتَبَّل: مسالہ دار، چٹپٹا، مزیدار۔ باذنجان مُتَبَّل: مسالہ بھرا بینگن۔

○ تَبْلُوہ جمع تبلوھات بنائی ہوئی تصویر، پینٹنگ۔

تبن ۱۔ تَبِنَ ـ تَبَنًا و تَبَانَةً: سمجھدار و زکی ہونا صفت تَبِن۔ تَبَّنَ الرجلُ باریک بین ہونا۔

۲۔ تَبَنَ ـ تَبْنًا الدابةَ: جانور کو بھوسہ کھلانا۔ تَبَّنَ: بھوسہ گودام میں رکھنا۔ التِّبْن واحد تبنہ: بھوسہ۔ التِّبْنِیّ: بھوسہ رنگ کا۔ التَّبَّان: بھوسہ فروش۔ (عام لوگ اس کو بھوسہ کے گودام کے معنی میں استعمال کرتے ہیں)۔ المَتْبَن: بھوسہ رکھنے کی جگہ، بھوسے کا گودام۔

۳۔ التُّبَّان: لنگوٹ، جانگھیا، نیکر۔ دربُ التَّبَّانة: (فلک): کہکشاں (عام لوگوں کی زبان میں)۔

○ مَتْبَن جمع مَتَابِن بھوسے کا پیا ہوا ڈھیر۔

تبا: تبا ـ تَبْوًا: حملہ کرنا، لوٹنا۔

تتر: التَّتَر واحد تَتَرِی: تاتاری لوگ۔ کہا جاتا ہے: جَاءَ القومُ تَتْرَی و تَتْرًی: لوگ پے در پے آئے، اس کی اصل وَتْرَی ہے۔

تِتِك: لبلبی، (بندوق کا) گھوڑا۔

تتن: التُّتُن: تمباکو۔

○ تِتَّوس: کراز، تشنج۔

تجر: تَجَرَ ـ تَجْرًا و تِجَارةً و تَاجَرَ و اتَّجَرَ اِتَّجَرَ: تجارت کرنا، سوداگری کرنا۔ التَّاجِر جمع تِجَار و تُجَّار و تَجْر: تاجر، سوداگر، بیوپاری۔ عرب شراب فروش کو تاجر کہا کرتے تھے۔ ـ جمع تَوَاجِر رائج۔ کہا جاتا ہے: بضاعة تاجرة بازار

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

میں بکنے والا سامان (اس کی ضد کاسدہ ہے)۔
التجارۃ نفع کی غرض سے خرید وفروخت، سوداگری،
تجارت، سرمایہ، تجارت۔ المَتْجَر: تجارت،
سرمایہ۔ اس سے ہے: صَنْعَتُهُ فی متجر الحمد
رَابِحَة۔ المَتْجَرة جمع مَتَاجِر: منڈی۔ کہا
جاتا ہے: ارضٌ مَتْجَرَةٌ: تجارتی ملک۔
○ تَجَرَ ـ و تَاجَرَ و اِتَّجَرَ فی /ب: کی تجارت کرنا،
کا کاروبار کرنا۔ تَاجَرَہ: کے ساتھ کاروبار کرنا۔
تِجَارَۃ: تجارت، بیوپار، لین دین، بڑے پیمانے پر
تجارت، سوداگری۔ تجارتی مال، مال تجارت۔
تِجَارِی: تجارتی، کاروباری۔ بیت تجاری:
کاروباری ادارہ، فرم۔ الحرکۃ التجاریۃ
تجارت۔ شِرکۃ تجاریۃ: تجارتی کمپنی۔ اتفاق
تجاری: تجارتی اتحاد۔ مَتْجَر جمع مَتَاجِر:
کاروبار، سودا، معاملہ، لین دین، سامان تجارت، سٹور،
دوکان۔ مَتْجَرِی: تجارتی، کاروباری۔ اِتِّجَار
ب: کی تجارت، کا کاروبار۔ تاجر جمع تُجَّار و
تِجَار: سوداگر، تاجر، کاروباری آدمی۔ تاجر
الجملۃ: تھوک بیوپاری۔ تاجر التَّجزئۃ و
تاجر القِطَاعِیّ: پرچون فروش، خوردہ فروش۔
بِضَاعَۃ تاجرۃ: قابل فروخت سامان تجارت۔

تحت: ا۔ تَحْت جمع تُحُوت: ظرف مکان بمعنی
نیچے۔ اس کے لئے اضافت ضروری ہے۔ دوسری
صورت میں بنی بر ضمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے:
جاءَ مِن تحتُ: وہ نیچے سے آیا۔ التُّحُوت:
کمینے لوگ۔ التَّحْتَانِیّ: نیچے کا، نیچے سے متعلق،
نچلا۔
۲۔ تَحْتَحَ ہ من مکانہ: کو جگہ سے حرکت دینا۔ کہا جاتا
ہے: فلانٌ لا یُتَحْتَح من مکانہ: فلاں شخص اپنی
جگہ سے نہیں ہلتا۔ التَّحْتَحَۃ: حرکت، تسمہ کی حرکت
کی آواز۔
○ تَحْتَ: نیچے۔ تحتَ التَّجْرِبَۃ: آزمائشی تجرباتی
حالت میں، زیر تجربہ۔ تحت التحضیر: زیر
تیاری۔ تحتَ الحِفظ: زیر حراست، زیر نگہبانی۔
تحتَ السداد و تحت التسدید: واجب الادا۔
تحتَ اِشراف: کے زیر سرپرستی، کے زیر انتظام۔
تحت الشعور: تحت الشعوری، نیم شعوری۔
تَحتَ تَصَرُّفِهِ: اس کے ہاتھ میں، اس کے سپرد،
اس کی تحویل میں۔ تحتَ الطَّبْع: زیر طباعت۔
تحت عنوانِ۔۔: کے زیر عنوان۔ تحتَ اَعْیُنِنَا:
ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تحت التمرین:

زیر تربیت۔ تحتَ الیَد: موجود، حاضر، پیش نظر،
قریب ہی، برتنے میں سہل۔ تحتَ یَدِہ: اس کے
اختیار میں۔ مِن تحتِ: نیچے سے، نیچے۔
تَحْتَانِی: نچلا۔ مَلابِسُ تحتانیۃ: زیر جامہ
underwear۔

تحف: اَتْحَفَہُ الشیءَ و بالشیءِ و اتَّحَفَہُ بہ:
کو کوئی چیز بطور ہدیہ دینا، بطور تحفہ پیش کرنا۔ التُّحفہ
والتُّحَفَۃ جمع تُحَف: ہدیہ، تحفہ۔ بڑھیا قیمتی چیز،
ہر وہ چیز جو بطور لطف ومہربانی کسی کو پیش کی جائے۔
○ اَتْحَفَ ہ ب/ہ: کو کوئی تحفہ دینا، تحفہ پیش کرنا۔
تُحْفَۃ جمع تُحَف: تحفہ، ہدیہ، خوبصورت اور انمول
شئے، عجیب شئے، انوکھی شئے، نادر شئے، نادرہ روزگار،
نیکی یا خیر کی کوئی چیز، آرٹ کی کوئی چیز، آرٹ کا کوئی
کام۔ تحفۃ فَنِّیَّۃ: آرٹ کا فقید المثال کام۔
مَتْحَف جمع مَتَاحِف: عجائب گھر، عجائب خانہ۔
متحف الشمع: موی پتلوں کی نمائش گاہ۔

تحم: ا۔ تَحَمَ ـ تَحْمًا الحائِكُ الثوبَ: جولاہے
کا کپڑے پر بیل بوٹے ڈالنا، کاڑھنا۔ التَّاحِم:
جولاہا۔
۲۔ اِتْحَمَّ اِتْحِمَامًا: تخت سیاہ ہونا یا سرخی مائل سیاہ
ہونا۔ صفت اَتْحَم۔ التُّحْمَۃ: سیاہی کی شدت، لالی،
سرخی۔ الاَتْحَم: تخت سیاہ۔

تخ: ا۔ تَخَّ ـ تُخُوخَۃً العجینُ: گندھے ہوئے
آٹے میں خمیر اٹھنا، ترش ہونا۔ ـــ تَخًّا و اَتَخَّ
العجینَ او الطینَ: گندھے ہوئے آٹے یا مٹی
میں پانی بڑھانا تا کہ وہ نرم ہو جائیں۔ التَّخّ: خمیرہ
آٹا۔
۲۔ التَّخ: تلوں کا نچوڑ۔

تخت: ا۔ التَّخت جمع تُخُوت: تخت، پلنگ، کپڑوں
کی الماری۔ تخت المملکۃ: مملکت کا
دارالحکومت۔ تختُ المَلِك: شاہی عرش، تخت
شاہی۔
۲۔ التَّخْتَخَۃ: زبان کی لکنت، ہکلا پن۔ التَّخْتَاخ
و التَّخْتَخَانِیّ: ہکلا۔
○ تَخَّ ـ تَخًّا: ترش ہونا، کھٹا ہونا، خمیرا ہونا۔
○ تَخْت جمع تُخُوت: پلنگ، چارپائی، صوفہ، چٹی، بنچ،
سیٹ، چیزوں کی نمائش کی الماری، صندوق، خزانے کا
صندوق، الماری، کپڑوں کی الماری، جامہ دان، منبر،
چبوترا، سٹیج، شہ نشین، سنگت، سرود گاہ۔ تختُ
المُلْك: عرش، تخت شاہی، شاہی محل، دارالحکومت۔
[illegible]

تختروان، بچر برداشتہ ڈالی، پالکی۔
○ تَخْتَۃ: بورڈ، ڈیک، تختہ سیاہ۔
○ تَخْتَخَ: گلنا، سڑنا، مرجھانا، زوال پذیر ہونا۔
تخذ: تَخِذَہ: کو لینا۔
تخم: ا۔ تَخَمَ ـ تَخْمًا ہ: کی حد مقرر کرنا۔ تَاخَمَ
مُلكی مُلكَكَ: میرے ملک کی سرحد کا تیرے ملک
کی سرحد سے متصل و ملحق ہونا۔ التُّخْم و التَّخْم
جمع تُخُوم: سرحد۔
۲۔ تَخِمَ ـ تَخَمًا و اتَّخَمَ: کو بدہضمی ہونا، اَتْخَمَ
ہ الطعامُ: کھانے کا کسی میں بدہضمی پیدا کرنا۔
○ تَخِمَ ـ تَخَمًا: بدہضمی میں مبتلا ہونا، زیادہ کھانے
سے بیمار محسوس کرنا۔ اَتْخَمَ ہ: کو بہت زیادہ کھلا
دینا، کا جی بھر دینا، زیادہ کھلا کر منہ پھیر دینا، کو بدہضمی
کرنا، بیمار کرنا۔ ـــ ہ: (پیٹ) میں زیادہ کھانا
ٹھونسنا، پیٹ بھر دینا۔ اِتَّخَمَ: بدہضمی ہو جانا، زیادہ
کھانے سے بیمار محسوس کرنا۔ تُخَمۃ و تُخْمَۃ جمع
تُخَم و تُخَمات: بدہضمی۔ مَتْخُومٌ: بدہضمی میں
مبتلا، بدہضمی کا، بدہضمی سے نڈھال، جسے بدہضمی کی
شکایت ہو۔ تَخَمَ ـ تَخْمًا ہ: کی حدیں مقرر
کرنا، کی حد بندی کرنا، کی سرحد مقرر کرنا، کی حد کا کام
دینا، کی حد کے اندر رکھنا، کی حد ہونا۔ تَاخَمَ ہ:
سے متصل ہونا، ملحق ہونا، ملا ہوا ہونا۔ تُخُم و
تُخْم جمع تُخُوم: حد، سرحد، حد فاصل۔
مُتَاخِم: متصل، ہمسایہ، قریبی۔
تدر: التَّدْرُج و التُّدْرُج جمع تَدَارِج (ح): ایک
خوبصورت لمبی دم والا پرندہ (فارسی لفظ)۔
○ تَدْرُج و تَدْرُجَۃ: چکور، دراج۔
○ تَدْمُر: جس کا تلفظ عموماً تُدْمُور کیا جاتا ہے۔ شام
کے ایک قدیم شہر کا نام، جو اب ایک چھوٹا سا گاؤں
ہے۔ اسے palmyra کہا جاتا ہے۔ تَدْمُرِی
(تلفظ تُدْمُورِی) کوئی ایک۔ لاتدمری: کوئی
بھی نہیں، کوئی زندہ روح نہیں۔
تر: ا۔ تَرَّ ـ تَرَارَۃً الرجلُ: موٹا اور ڈھیلا ہونا۔
صفت: تَارّ۔
۲۔ تَرَّ ـ تَرًّا و تُرُورًا عن قومہ: اپنی قوم سے جدا
ہونا، دور ہونا۔ ـــ العظمُ: ہڈی کا کٹ کر گر جانا۔
اَتَرَّہ: کو دور کرنا۔ ـــ یَدَہ: کا ہاتھ کاٹنا۔ التَّرِیّ
من الایدی: کٹا ہوا ہاتھ۔
۳۔ التُّرّ: اصل، جڑ، معمار کا سوت۔
○ تَرَابِیزَۃ جمع تَرَابِیزات: میز
○ تَرَاخُوما: آنکھ کی ایک بیماری جس میں پپوٹے کے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اندر دانے نکل آتے ہیں۔Trachoma۔

○ تِرَاس جمع تراسات ڈھلان کے اوپر کا چبوترہ، رَوِش (گھر یا باغ میں) اونچی جگہ یکساں مکانوں کی قطار (terrace)۔

○ تَرَام و تَرَامَوَای ٹرام، ٹرام وے tramway۔

ترب:ا۔ تَرِبَ - تَرَبًا المکانُ: جگہ کا بہت مٹی والا ہونا۔ ـ الشیءُ (کو) مٹی لگنا، ـ تَرَبًا و مَتْرَبًا الرجلُ محتاج ہونا صفت: تَرِیب و تُرُوب جمع تِرَاب۔اسی سے ہے: تَرِبَ بعدان أَتْرَبَ: وہ مالدار ہونے کے بعد محتاج وفقیر ہوگیا۔ تَـــرَّبَ و أَتْرَبَ مالدار ہونا، تہی دست محتاج ہونا (ضد)۔ ـ الشیءَ پرمٹی ڈالنا۔ تَتَرَّبَ مٹی ہونا، خاک آلود ہونا۔ التُراب جمع اَتْرِبَة و تِربان مٹی۔ التُرب والتُرْب مٹی۔ التَرْباء: مٹی۔زمین، کہتے ہیں: بینهما مابین الجرباء والتَرباء: ان دونوں کے درمیان آسمان اور زمین جیسا فرق ہے۔ (دیکھو جرباء مادہ جرب میں)۔ التُرْبَة جمع تُرَب: مٹی، مقبرہ۔ تُـــرْبَة الانســـان: انسان کی قبر۔ التَــرِب: غریب محتاج۔ رِیـــحٌ تَـــرِبَة: خاک اڑانے والی ہوا۔ لحـمٌ تَرِبٌ: خاک ملا گوشت۔ مَـكانٌ تَرِبٌ: بہت مٹی والی جگہ۔ المَتْرَبَة: فقروفاقہ۔کہا جاتا ہے: مسكينٌ ذو مَتْرَبَةٍ: خاک آلود مسکین۔

۲۔ تَارَبَ ہ: کا ہم عصر ہونا، دوست ہونا۔ ـ ت فلانةٌ فلانةً: فلاں عورت فلاں کی دوست اور ہمجولی ہے۔ التِــرْب جمع اَتْـــراب: ہم عمر، ہم سن، دوست، ساتھی۔ اس کا اکثر استعمال مونث میں ہوتا ہے۔کہا جاتا ہے: هذه تِربُ فلانةٍ: وہ اس کی ہم عمر ہے۔

۳۔ التَرِبَة جمع تَرِب ایک قسم کی گھاس۔ ـ جمع تَـــرِبـــات انگلیوں کے پورے۔ التَــرِيْبَة جمع تَـــرَائِــب: سینہ کی ہڈی، سینہ کا بالائی حصہ۔ تَرِيبَة البَعِير: اونٹ کے نحر کی جگہ۔

○ تَرِب - تَـرَبًا: گرد آلود ہونا یا ہوجانا، گرد سے اٹا ہوا ہونا یا ہوجانا۔ تَـرَّبَ و اَتْرَبَ ہ/ہ: کو دھول یا مٹی سے ڈھانپنا، ڈھانکنا۔ تَـــارَبَ ہ: کا ساتھی ہونا، کا ہم عمر ہونا۔ تَتَرَّبَ: گرد آلود ہونا، گرد وغبار سے اٹا ہوا ہونا۔ تِـــرب جمع اَتْـــراب: ہم عمر، ہم عصر، ساتھی۔ تَـــرِب: گرد آلود، گرد وغبار سے اٹا ہوا۔ تُـرْبَة جمع تُـرَب: مٹی، گرد وغبار، کیچڑ، میدان، قبر، مقبرہ، قبرستان، دفن کرنے کی جگہ۔ تُـــرَبِـــی جمع تُرَبِيَة: گورکن۔ تُرَاب جمع اَتْرِبَة و تِـرْبَان: گرد، زمین، کیچڑ، میدان، مٹی۔ تُــرَابِــی: خاک آلود، گرد آلود، غبار اٹا، سفوف بنا ہوا، سفوف سا، پسا ہوا، جس کو بآسانی سفوف بنایا جاسکے۔مٹی جیسا، مٹی کا، گرد وغبار میں اٹا ہوا، بھورا۔ تُـــرَابَة: سیمنٹ۔ تَـــرِيْبَة جمع تَـــرَائِـــب: سینہ، چھاتی۔ مَتْـــرَبَة: غربت، خواری، تہی دستی محتاجی جمع مَتَارِب: کیچڑ بھری کان۔ مُتْــــرِب: گرد آگود، گرد وغبار سے اٹا ہوا۔

○ تَرْبَسَ (=دَرْبَسَ) ہ: (دروازے کو) چٹخنی لگانا۔ تِـرباس جمع تَـرابيـس و تَـرَابِس: چٹخنی، سٹکنی، بلّی، کھٹکا۔

○ تربَنْتِين: تارپین کا تیل۔

○ تَرَبِيزَة: میز۔

○ تُرْبِين جمع تَرْبِينات: چرخ turbine

ترتر: تَـرْتَـرَ تَرْتَرَةً: جلدی جلدی اور بہت بولنا، گفتگو میں نرم اور بدن میں ڈھیلا ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو خوب ہلانا۔ تَتَـرْتَـرَ: ہل جانا۔ التَـــراتِــر: سختیاں۔

○ تِرْتِر: سونے چاندی کے سلمے ستارے۔

ترج:ا۔ تَرِجَ - تَـرَجًـا الرجلُ: کے لئے کسی چیز کا مبہم اور نامعلوم ہونا، گول مول یا غیر واضح ہونا۔ تَـرَجَ - تَـــرْجًـا: چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ التَــرِيج مونث تَـــرِيـجة: مضبوط پٹھوں والا۔کہا جاتا ہے: رِيحٌ تَرِيْجَةٌ: تیز وتند ہوا۔

۲۔ تَـــرْجَـــمَ الـكلامَ: کا ترجمہ کرنا، دوسری زبان میں وضاحت کرنا صفت تَـرْجُـمَـــان و تُرجُمـان جمع تَـرَاجِـمــه و تَرَاجِم: کہا جاتا ہے: تَـرْجَـمَـه بـالتركية: اس نے اس کا ترکی میں ترجمہ کیا۔ ـــ عنـــه: کے معاملہ کو واضح کرنا۔ التَـرْجَـمَة جمع تَرَاجِم: ترجمہ۔

۳۔ تُرْجِمَ الکلامُ: کلام کا مشتبہ ہونا۔

۴۔ تَـــرْجَـــمَ الـرجـلَ: کسی شخص کے عادات وفضائل بیان کرنا، کسی شخص کی سوانح حیات لکھنا۔ التَـــرْجَمَة جمع تَرَاجِم: کسی شخص کی سوانح حیات۔ تَرْجَمَة الکتاب: کتاب کا دیباچہ۔

○ تَرْجَمَ ہ عن إلی: کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا۔ ـــ ہ: کی تشریح کرنا، توضیح کرنا، کا مطالب سمجھانا، کی ترجمانی کرنا، کے متعلق ہونا، پر ہونا بطور تشریح، کی تفسیر بیان کرنا، کو تفصیل سے سمجھانا یا پیش کرنا۔ تَـــرْجَـمَ ہ/ل: کی سوانح حیات، سیرت یا [illegible] تَرْجَمَة [illegible] تراجم: ترجمہ،

تشریح، سوانح حیات، سیرت، تذکرہ۔ (تـــرجـمـةُ الـحـيـاة: سوانح حیات، سیرت تذکرہ)۔تعارف، دیباچہ، پیش لفظ (کتاب کا) الترجمة السَبْعِينِيَّة: عہد عتیق کا یونانی ترجمہ، ہفتاوی ترجمہ، سَبْعِينِي۔ تَرْجُمَان جمع تَـراجِـمَة و تَـراجِيـم: مترجم، ترجمان، سوانح نگار، سیرت نویس۔ مُتَـــرْجَـــم: ترجمہ شدہ۔ مُتَرْجَمٌ عَلی الفِلْم: ایکشن کے ساتھ بیک وقت آواز والی (فلم) ہم وقت ایکشن اور آواز والی (فلم)۔

ترح: تَرِحَ - تَـرَحًا و تَتَرَّحَ: غمگین ہونا۔ تَرَّحَ و اَتْرَحَ ہ: کو غمگین کرنا۔ التَرَح جمع اَتْرَاح: غم اور پریشانی یا تشویش، افلاس، محتاجی، فقیری۔ التَرِح: بہت غمگین، کم خیر والا۔ المِتْرَاح من النوق: تھوڑی مدت دودھ دینے والی اونٹنی۔

ترز:ا۔ تَـرَزَ - تَـرْزًا ہ: کو پچھاڑنا۔ التُــراز: اچانک موت۔

۲۔ تَرَزَ - و تَرِزَ - تَرْزًا و تَرَزًا و تُرُوزًا الشیءُ: خشک ہونا، سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ ـــ الماءُ: پانی کا جم جانا۔ ـ الشیءَ: کو سخت کرنا، خشک کرنا۔کہا جاتا ہے: الـجری يُتْرِزُ لحم الدابَّةِ: دوڑ جانور کے گوشت کو سخت کردیتی ہے۔ التَارِز: مضبوط اور سخت (اسی سے ہے: ان عجـينكم لتارِزٌ: تمہارا خمیر سخت ہے) خشک و بے روح، مردہ۔

○ تَرْزِی جمع تَرْزِيَة: درزی۔ تَرْزِيَة: سینے پرونے کا کام، درزی کا کام۔

تـرس:ا۔ تَـرَّسَ ہ: کو ڈھال پہنانا یا دینا، کو ڈھال دلوانا۔ ـــــ و تَتَـرَّسَ: ڈھال پہننا اور اس سے حفاظت کرنا، چھپنا صفت: تـــارِس۔ کہا جاتا ہے: لایستـوی الـرَاجِلُ و الـفـارِسُ والأكْشَفُ والتـــارِس: پیدل اور سوار اور بے ڈھال اور ڈھال والا برابر نہیں ہوتے۔ الأكْشَف کا معنی ہے جس کے پاس ڈھال نہ ہو۔ اِتَّـرَسَ بـالترس او غیرہ: ڈھال وغیرہ سے اپنی حفاظت کرنا۔ التُـــرْس جمع اَتْـرَاس و تِـراس و تُـرُوس و تِرَسَة: ڈھال۔ تُـرسُ الشمـــس: سورج کی ٹکیہ۔یہ مجاز ہے۔کہا جاتا ہے: غـابَ تُـرسُ الشمس: سورج غروب ہوگیا۔ المِتْـرَس والمِتْـرَسَة جمع مَتَارِس و المِتْـراس جمع مَتَارِيــس: مورچہ، کھائی۔ التَـــرَّاس: ڈھال بنانے والا، ڈھال والا، ڈھال کا حامل۔ التِرَاسَة: ڈھال بنانے کا پیشہ۔

۲۔ اَتْـرَسَ البـــاب: دروازہ بند کرنا۔ المِتْـرَس و

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المُتَرَسَة جمع مَتَارِس و المِتْرَاس جمع مَتَارِيس: دروازے کے پیچھے لگانے کا ڈنڈا۔

۳۔ التَرسانَة و التَرسُخانَة: اسلحہ خانہ، (بحری) جہاز سازی کا کارخانہ۔ (ترکی زبان کا لفظ)۔

○ تَرَسَ: ڈھال یا زرہ بکتر مہیا کرنا۔ تُرس جمع اَتْرَاس و تُرُوس: ڈھال، سورج کی ٹکیہ۔ تِرس جمع تُرُوس: دندانے دار پہیہ، گئر (gear)، صندوق التُرُوس: گئر بکس gear box، گئروں کا نظام (the system of gears) transmission۔ سَمَكُ التُرس: ایک بڑی چپٹی مچھلی جو کھانے میں لذیذ ہوتی ہے (turbot)۔ مَتْرَس و مِتْرَس جمع مَتَارِس اور مِتْرَاس جمع مَتَارِيس: چٹخنی، دروازہ بند کرنے کا کھٹکا، فصیل، دیوار، پشتہ، قلعہ، چار دیواری، ستر پناہ، کچا پشتہ، کچی مورچہ بندی، عارضی روک، عجلت میں تیار کیا ہوا مورچہ۔ مَتَارِيس: کچے پشتے، کچے مورچے، عارضی رکاوٹیں، کچی مورچہ بندیاں، عجلت میں تیار کئے ہوئے مورچے۔ تَرسانه و تَرسُخانَة: اسلحہ خانہ، میگزین، ہتھیار گھر، مرکز جہاز سازی shipyard، گودیاں، بندرگاہ۔

○ تَرسِكل: ٹرائیکل، تین پہیوں کی سائیکل، trycycle۔

○ تَرسِينَة: بالکونی (balcony) چھجا، شہ نشین۔

ترش: تَرِشَ ۔ تَرَشًا: بدخلق ہونا صفت: تَرِش

ترص: تَرُصَ ۔ تَرَاصَةَ الشيءُ: مضبوط ہونا، سیدھا ہونا صفت: تَرِيص۔ تَرَّصَ و اَتْرَصَ الميزانَ: ترازو کو سیدھا کرنا، صفت مفعولی: تَرِيص و مُتْرَص کہا جاتا ہے: اَتْرِص مِيزانَك فانه شائِل: اپنی ترازو ٹھیک کر لے کیونکہ اس کا پلڑا اٹھا ہوا ہے۔ المُتْرَصات: سیدھے نیزے۔

ترع: ا۔ تَرِعَ ۔ تَرَعًا: برائی کی طرف سبقت کرنا صفت: تَرِع و تَرِيع ۔ تَتَرَّعَ اليهِ بالشَرّ: کسی کو برائی جلدی سے پہنچانا۔

۲۔ تَرَعَ ۔ تَرْعًا عن الأمر: کو سے روکنا، باز رکھنا۔ تَرَّعَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ التُرعَة جمع تُرَع: دروازہ۔ کہا جاتا ہے: فتح ترعة الدار: اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ التَرَّاع: دربان۔

۳۔ تَرِعَ ۔ تَرَعًا الكوزُ او الحَوضُ: کوزے یا حوض کا بھر جانا صفت تَرِع۔ اَتْرَعَ الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ اِتْرَعَ الإناءُ: برتن کا بھر جانا۔ التَرَّاع و الاَتْرَع من السيل: وادی کو بھر دینے والا اسلاب۔

التُرعَة جمع تُرَع: باغ، باغ کو جانے والی نالی، دو دریاؤں یا سمندروں یا پانی کے دوسرے قطعوں کے درمیان ہاتھوں سے بنائی ہوئی گہری نہر۔

○ تَرِعَ ۔ تَرَعًا: برتن کا پُر ہونا یا ہو جانا۔ اَتْرَعَ ہ: کو خصوصاً برتن کو بھرنا۔ تُرعَة جمع تُرَع و تُرعَات: نہر (canal)، کشتی پانی یا جہاز رانی کے قابل مصنوعی گزرگاہ۔ تُرعَة الإيراد: آبپاشی کی نہر، معاون ندی (feeder)۔ ترعة التصريف: پانی کے نکاس کی نہر۔ الترعة الشريفة: شاہ مراکش کی قیام گاہ۔

ترغ: التُرغُلَة (ح) جنگلی کبوتر۔

○ تُرغُل و تُرغُلَّة: جنگلی فاختہ۔

ترف: ا۔ تَرِفَ ۔ تَرَفًا و تَتَرَّفَ: خوش حال و آسودہ حال ہونا صفت: تَرِف و تَرِيف تَرَّفَ و اَتْرَفَ ہ المالُ: کو مال و دولت کا سرکش بنانا، خراب کر دینا۔ اَتْرَفَ الرجلُ: سرکشی پر اصرار کرنا۔ اِستَترَفَ: بغاوت کرنا، سرکشی کرنا۔ التُرفَة: نعمت، آسائش کی زندگی۔ المُترَف و المُتَتَرِّف: خوشحال، من مانیاں کرنے والا اور کوئی اسے روک نہ سکے۔

۲۔ التُرفة: اوپر کے ہونٹ کے وسط میں فطری ابھار۔ الأَترَف: وہ شخص جس کے اوپر کے ہونٹ میں فطری ابھار ہو۔

۳۔ التِرفاس (ن): ایشیا اور افریقہ کے صحراؤں میں زمین کے نیچے رہنے والی ایک قسم کی کھمبی جس کی جڑیں کھانے کو لذیذ بناتی ہیں۔ (truffle)۔

○ تَرِفَ ۔ تَرَفًا: متمول زندگی گزارنا، عیش و عشرت و ناز و نعمت کی زندگی گزارنا۔ اَترَفَ ہ: کو کمزور بنانا، بزدل بنانا، نامرد بنانا، کو فراواں وسائل فراہم کرنا، کو عیش و عشرت اور ناز و نعمت سے گھیرے ہوئے ہونا۔ تَطَرَّفَ: تمول کی زندگی بسر کرنا، عیش و عشرت میں ہونا، ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنا۔ تَرَف و تُرفَة: عیش و عشرت، ناز و نعمت، فراوانی، دولتمندی، تونگری، مرفہ الحالی، دولت کی بہتات و کثرت، بزدلی، نامردی، زن صفتی، زنانہ پن۔ تَرِف: دولتمند، مالدار، تونگر، فراواں پر تکلیف، گراں قدر، بیش قیمت، عیش پرست، عیش و عشرت کا دلدادہ۔ ــ ب: سامان عیش و عشرت سے آراستہ، آراستہ پیراستہ، مزین، بہت زیادہ سجا ہوا، سامان عیش و عشرت سے آرائش کیا ہوا۔

ترق: التَرقُوَة جمع التَراقِي و التَرائق (ع ا) ہنسلی، کہا جاتا ہے: تَرقاةُ تَرقاةً: اس نے اس کی ہنسلی پر مارا ...

ترك: تَرَكَ ۔ تَرْكًا و تِركانًا و اَترَكَهُ: کو چھوڑنا، نظر انداز کرنا، فراموش کرنا، سے غفلت کرنا، بے توجہی کرنا، تغافل کرنا، کو بھول جانا۔ تَارَكَ مُتَارَكَة و تِراكًا: کو چھوڑنا۔ ــ الرجلَ: سے مصالحت کرنا۔ تَتَارَكوا الامرَ بينهم: کے چھوڑنے پر اتفاق کرنا۔ تَرَاكِ: فعل امر کا اسم بمعنی: اُترُك چھوڑ دے۔ التَرِكَة و التَرِيكَة: وہ عورت جو اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہے اور کوئی اس سے شادی نہ کرے۔ شتر مرغ کا چھوڑا ہوا انڈہ، بچہ نکلنے کے بعد انڈے کا خول، خود (جو فوجی سر پر رکھتے ہیں) التَرِكة و التِرِكَة: چھوڑی ہوئی چیز۔ اسی سے ہے: تَرِكة الميّت: مرنے والے کا ترکہ۔ ... چھوڑا ہوا۔ ــ من الكرم و النخل: انگور یا کھجور کا خوشہ یا گچھا جب سب کھا لیا گیا ہو یا تھوڑا چھوڑ دیا گیا ہو۔ التَرَّاك: بہت چھوڑنے والا۔

○ تَرَكَ ۔ تَركًا ہ: کو چھوڑ دینا، کا حلفیہ انکار کرنا یا تردید کرنا، کو ترک کرنا، سے دستبردار ہونا، قطع تعلق کرنا، کو ماننے سے انکار کر دینا، سے باز رہنا، سے پرہیز کرنا، احتراز کرنا، محترز رہنا، اجتناب کرنا۔ ــ ہ: کو چھوڑ دینا، ــ ہ (کسی جگہ سے) چلے جانا، کو چھوڑ دینا، ایک چیز چھوڑ کر دوسری کی طرف جانا، (بے عزتی) پی جانا، کو نظر انداز کرنا، میں غفلت کرنا، کو کرنا بھول جانا، نہ کرنا، کو گرانا۔ ــ ہ اِلى بالِ: کو پر چھوڑنا۔ ــ ہ ل: کیلئے کوئی چیز بطور ترکہ، میراث، ورثہ پیچھے چھوڑ جانا، کسی چیز کو بطور ترکہ کے حوالے کرنا۔ کے لئے کسی چیز کو ورثے میں چھوڑنا، ترکہ چھوڑنا، کو کوئی چیز میراث کے طور پر دینا۔ تَرَكَهُ يفعلُ: کو کچھ کرنے دینا۔ تَرَكَ مكانا إلى: ایک جگہ کو دوسری جگہ کے لئے چھوڑنا۔ تَرَكَهُ في ذِمّتِه: کو کسی زیر نگرانی چھوڑنا، کو کے لئے چھوڑنا۔ تَرَكَهُ على حالِه: کسی چیز یا شخص کو بلا تغیر چھوڑنا کسی چیز یا شخص کو چھوڑنا۔ تَرَكَهُ و شأنَه: کو تنہا چھوڑنا، کو اپنی تدبیر آپ کرنے دینا۔ تَارَكَ ہ: کو چھوڑنا، کو تنہا چھوڑنا، کے خلاف جارحانہ اقدامات چھوڑنا، روک دینا۔ تَتَرَّكَ: چھوڑ دینا، غفلت، تغافل، تساہل، ترک کرنا، چھوڑ بیٹھنا، چھوڑنا، پیچھے چھوڑنا۔ تَرِكة جمع تَرِكات (نیز تِركة): ورثہ، ترکہ، میراث۔ تَرِيكة جمع تَرائِك: بوڑھی بن بیاہی عورت، بوڑھی کنواری، نالخذا عورت۔ مُتَارَكَة: التوائے جنگ، عارضی صلح، متارکہ۔ مَترُوك جمع متروكات: ترکہ، ورثہ، میراث۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ ترّكَ ہ: کوترکی بنانا۔ استترك: ترکی ہوجانا، ترکی رسم ورواج اختیار کرنا۔ التُرك و الأتراك: ترک (لوگ)۔ تركي: ترکی کا، ترکی کا باشندہ۔ التُركية: ترکی زبان۔ تُركِيا: ترکی (ملک)

○ تُركِستان: ترکستان (ملک)۔ التُركمان: ترکمان۔

ترم: ا۔ الترامواي: برقی ٹرین، ٹرام وے۔ ترامِيسِس: پیشاب کی نالی کے ورموں کے علاج کی دوا۔

۲۔ ترمّسَ: لڑائی سے غائب ہوجانا۔

۳۔ ترمّسَت الدابّةُ: جانور کے جبڑے کے اندر کی جانب ترمس کے مشابہ پھنسیاں نکلنا۔ التُرمُس (ن): ایک قسم کی نباتات جس کا بیج مزے میں کڑوا ہوتا ہے اور پانی میں بھگوکر استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۔ الترمُس (ف): تھرماس thermos

۵۔ الترمومتر (طب): حرارت پیما thermo-meter جسے عربی میں میزان الحرارۃ کہتے ہیں۔ جو حرارت یا تپش معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے۔

○ ترمُبيط جمع ترمبيطات: (مغربی): ڈھول، ڈھولک۔ ترمُبيطة جمع ترمُبيطات: ڈھول، ڈھولک خصوصاً نیچے سروالا ڈھول یا ڈھولک ترمُبطجي: دہل نواز، طبل نواز، ڈھولچی، بینڈ والا، باجے والا۔

○ ترمس و ترمُوس: باغوں میں اگایا جانے والا ایک اونچا پودا جس کا لمبا نوک دار تنا ہوتا ہے جن پر چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں۔ یہ پھول نیلے، اودے، پیازی سفید یا پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ (lupin یا luprine)۔

ترن: التُرُنج (ن): لیموں، لیموں کا درخت، اسے الأترُجّ بھی کہا جاتا ہے۔ عام لوگ اس کو تُرُنْج کہتے ہیں۔

۲۔ الترُنجان (ن): ایک خوشبودار پودا جنوبی یورپ اور مشرق وسطی کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے، الکوحلی مشروبات کے طور پر استعمال کیا جاتا، کئی طبی فوائد کا حامل ہے۔

۳۔ الترانزيت (ت): سامان تجارت کی کسی شہر یا ملک کے علاقہ سے گزرنے کی راہ داری کسی محصول کی ادائگی کے بغیر۔

تره: تَرِهَ ـ ترَهًا: مصائب میں پڑنا۔ التَّرَهة جمع التَّرَّهات: باطل، بے سود کام، مصائب، چھوٹے راستے۔ التُرّۃ جمع تراريه: باطل۔

○ تَرِهَ ـ ترَهًا: بے کار کاموں یا باتوں سے دلچسپی لینا یا ان میں مصروف ہونا۔ ترّہ جمع ترّهات: بناوٹ، دکھاوا، مذاق، ڈھونگ، لایعنی بکواس، مضحکہ خیز ڈھونگ، جھوٹ، بکواس، ہنسی ہنسی میں دیا ہوا جھانسا۔

○ تِروادہ: ٹرائے (troy)۔

○ تروب: سکواڈ، پلاٹون، سکواڈرن۔ تروب سواري: گھڑسوار سکواڈرن، رسالہ۔

تری: ا۔ ترَى ـ ترْيًا في الأمر: کسی کام میں دیر کرنا۔

۲۔ التِرياق: زہر کے اثر کو دور کرنے والی دواء۔ — والتِرياقة: شراب (غموں کو دور کرنے کی وجہ سے)۔

○ تريكو: ایک قسم کا ہاتھ کا بنا ہوا اونی کپڑا، ابھری ہوئی دھاریوں کا کپڑا۔

تسع: تَسَعَ ـ تَسْعًا القومَ: کانواں ہونا، کانواں بنانا، کے مال کا نواں حصہ لینا۔ — المالَ: مال کا نواں حصہ لینا۔ أتسَعَ القومُ: نو ہوجانا۔ التِسعَة جمع تِسعات جس کا مونث تِسْعٌ ہے۔ (ع ح) نو۔ کہا جاتا ہے: تِسعةُ رجال: ۹ مرد۔ تِسعُ نساءٍ: نو عورتیں۔ تِسعةَ عشرَ رجلاً: ۱۹ مرد۔ تِسعَ عشرةَ امرأةً: ۱۹ عورتیں۔ التُسع و التَسيع: نواں حصہ۔ جمع أتساع۔ التاسِع: نواں۔ تِسعُون: نوے۔ تُساع: نونو۔ کہا جاتا ہے: جاء القومُ تُساعَ: لوگ نو نو کر کے آئے۔ یہ غیر منصرف ہے۔ التُساعِيّ: نو والا۔ التُساعِيَّة: معین عیدوں سے نو دن قبل مسیحیوں کے نزدیک پڑھی جانے والی نماز۔ وہ اسے تِسعَوِيّة بھی کہتے ہیں۔ التاسوعاء: مہینہ کا نواں دن۔ مَتْسُوع: نولڑیوں سے بٹی ہوئی۔ حبل مَتْسُوع: نولڑیوں سے بٹی ہوئی رسی (سریانی لفظ)۔

تشر: تِشرِين جمع تَشارِين: شمسی سال کے دو مہینے: اکتوبر و نومبر۔ تِشرين الاول: اکتوبر۔ تِشرين الثاني: نومبر۔ التشارِين: موسم خزاں، عام لوگوں کے نزدیک: توت کے درخت کے پتے جو ان دو مہینوں میں توڑ کر گائیوں وغیرہ کو کھلائے جاتے ہیں۔ اسی سے ان کا یہ قول ہے تَشرَنَ بقرةً: اس نے ماہ اکتوبر و نومبر میں توت کے پتے توڑ کر اپنی گائیوں کو کھلائے۔

○ تشيكوسلوفاكيا: چیکوسلواکیا czchoslovakia (ایک ملک کا نام)۔

[illegible] (chile) [illegible]

شمالی مراکش کے ایک شہر کا نام Tetuan۔

تع: تعالیٰ کا مخفف۔ دیکھو علو۔

تعّ: تَعَّ ـ تَعَّةً و تعًّا: ڈھیلا ہونا، قے کرنا۔

تعب: تَعِبَ ـ تَعَبًا: تھکنا، مشقت میں پڑنا صفت: تَعِب۔ أتعَبَ ہ: کو تھکانا۔ — فلانٌ نفسَهُ: اپنے آپ کو اپنے پر عائد کئے ہوئے فرائض کی سرانجام دہی میں تھکانا۔ — القومُ: کے جانوروں کا تھکا ہوا ہونا۔ التَعَب جمع أتعاب: تھکن۔ المَتعَب والمَتعَبة جمع مَتاعِب: تھکن، تھکاوٹ، تھکن کی جگہ، تھکن کا باعث وسبب۔ کہا جاتا ہے: إستِخراج المعمّى مَتعَبةٌ للخواطر: معمے کا حل کرنا دلوں کو تھکا دیتا ہے۔

۲۔ أتعَبَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

○ تَعِبَ ـ تَعَبًا: مشقت کرنا، محنت کرنا، غلامی کرنا، چاکری کرنا، تھکنا۔ — من: سے تھک جانا، تھکا ماندہ ہونا۔ أتعَبَ ہ: کو تکلیف دینا، تھکا دینا، اکتا دینا، کا ناک میں دم کرنا۔ تَعَب جمع أتعاب: تکلیف، مشقت، محنت، چاکری، بوجھ، تکلیف دہ کام یا چیز، مشکل، سختی، تھکن، تھکاوٹ جمع أتعاب: فیس fees، اعزازیہ (honorarium)۔ تَعِب: تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ مَتاعِب: تکلیف، کوششیں، مشکلیں، شکایتیں، علالتیں، بیماریاں، روگ، سختیاں، حد سے زیادہ بوجھ، حد سے زیادہ کوشش کے نقصانات۔ مُتعِب: تکلیف دہ، پرمشقت، محنت طلب، اجیرن، بوجھل، بھاری، اکتا دینے والا، گراں، ناگوار، پریشان کن، تھکا دینے والا، بے لطف، بے کیف، بیزار کن۔ مُتعَب: تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔

تعتع: تَعتَعَ ہ: کو سختی سے ہلانا۔ — في الكلام: بات کرنے میں ہکلانا۔ التَعاتِيع: خوف زدہ کرنے والی جھوٹی خبریں۔ کہا جاتا ہے: وقعوا في تعاتيعَ: وہ جھوٹی خبروں اور ہذیان میں پھنس گئے۔

○ تَعتَعَ: ہکلانا۔ — ہ: کو ہلانا۔ اِتّعتَعَ: ہلنا، حرکت کرنا۔

○ تَعِزّ: تعز (جنوبی یمن کا ایک شہر)۔

تعس: ا۔ تَعَسَ ـ و تَعِسَ ـ تَعْسًا و تَعَسًا: ہلاک ہونا۔ تَعَسَ ـ و أتعَسَ ہ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بدنصیب بنانا، ہلاک کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَعْسًا لَهُ: اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے۔ (مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ اس کا عامل محذوف ہے)۔ التَّعْس (مص): ہلاکت، بدی۔ المَتْعَسَة: ٹھوکر یا بلا کا سبب۔ کہا جاتا ہے: هذا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الامرُ منحسة مَتعسة: یہ معاملہ باعث نحوست و ہلاکت ہے۔

۳۔ تَعَسَ ۔ و تَعِسَ ۔ تَعْسًا و تَعَسًا: پھسلنا اور منہ کے بل گرنا صفت تَعِس و تَاعِس و تَعِیس۔ التَعْس: تنزل انحطاط۔ التَعْسَة: ٹھوکر۔

○ تَعَسَ ۔ و تَعِسَ ۔ تَعْسًا و تَعَسًا: گرنا، ہلاک ہونا، بدبخت ہو جانا، مصیبت زدہ ہو جانا، سخت بری حاجت میں ہونا۔ تَعَسَ و اَتْعَسَ ہ: کو سخت غمزدہ کرنا، یا ناخوش کرنا، کو تباہ کرنا۔ تَعْس و تَعَاسَة: غم، سخت بری حالت، سخت غربت، نکبت، سخت تکلیف، افلاس، کم بختی، بدنصیبی۔ تَعِس و تَعِیس جمع تُعَسَاء: مصیبت زدہ، بدبخت، سخت غمزدہ، سخت بری حالت میں، بدقسمت، ناخوش۔ مَتْعُوس جمع مَتَاعِیس: بمعنی تَعِس و تَعِیس۔

تعص: تَعِصَ ۔ تَعَصًا: زیادہ چلنے سے پٹھوں کا دکھنا۔

تغب: ۱۔ تَغِبَ ۔ تَغَبًا: ہلاک ہونا۔ اَتْغَبَ ہ: کو ہلاک کرنا۔ التَغَب: ہلاکت۔

۲۔ التَغْب و التُغْبَة: گناہ، قبیح۔ کہا جاتا ہے: مافیہ تُغْبَةٌ: اس میں کوئی ایسا عیب نہیں جس کی وجہ سے اس کی شہادت رد کی جا سکے۔ التَغَب: عیب، فساد، بھوک، میل کچیل۔

تغر: تَغَرَ ۔ تَغَرَانًا تِ القدرُ: ہنڈیا کا ابلنا۔ تَغَرًا و تُغُورًا ت السحابةُ: بادل کا پھٹ کر برسنا۔ العِرْقُ: رگ سے بہت خون نکلنا۔ جُرحٌ تَغَّارٌ: زخم جس سے خون بہتا ہو۔

تفّ: ۱۔ تَفَّفَ ہ: کو تف کہنا۔ التُفّ جمع تِفَفَة: ناخن کا میل۔ التُفَّة: حقیر و ذلیل عورت۔ التِفَّان: وقت۔ کہا جاتا ہے: اتیتكَ بِتِفَّانِہِ و علی تِفَّانِہِ: میں تمہارے پاس مناسب وقت پر آیا۔

۲۔ التِفَاف (ن): ایک پودا جس کا تنا کھوکھلا اور پتے دندانے دار ہوتے ہیں اور ٹوٹنے پر اس میں سے تھوڑا سا دودھ نکلتا ہے۔ التُفَفَة (ح): ایک چھوٹا کیڑہ جو کھال کو خراب کرتا ہے۔

○ تَفَّ: تھوکنا۔ تَفَّفَ: چھی چھی کہنا۔ تُفًّا لَكَ: چھی چھی، شرم شرم۔ تَفَّافَة: پیک دان، اگالدان۔

○ تَفِتَا و تِفِتَاہ: تافتہ دریائی، ریشم کا چمکدار کپڑا، سادہ بناوٹ کا ریشمی کپڑا۔(Taffeta)۔

تفِئ: تَفِئَ ۔ تَفَأً: سخت ناراض ہونا۔ تَفِیئَةُ و تَفِیَّةُ الشیء: کسی شئے کا وقت۔

تفت: تَفْتَعَ الضِحكَ: ہنسی یا قہقہہ کو چھپانا۔

الکلامَ: بات کو دہرائے جانا مگر واضح نہ کرنا۔ التَفْتَفَة: آواز میں بھاری پن۔

تفث: تَفِثَ ۔ تَفَثًا: پر میل کچیل چڑھ جانا صفت: تَفِث۔ تَفَّثَت الدماءُ مکانَہٗ: خون کا جگہ کو آلودہ کرنا۔ التَفَث: میل کچیل۔ کہا جاتا ہے: قضی تَفَثَہٗ: اس نے میل کچیل کو دور کیا۔

تفح: التُفَّاحُ جمع تَفَافِیح۔ واحد تُفَّاحَة (ن): سیب کا درخت، سیب۔ المَتْفَحَة: سیب کی پیداوار کی جگہ۔ التُفَّاحَتَان (ع ا): کولھوں میں رانوں کے سرے۔

تفر: ۱۔ اَتْفَرَ الشجرُ: درخت کا کونپلیں نکالنا۔ التَفِرَة (ن): درخت کے نیچے اگنے والی گھاس یا وہ گھاس جس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جانور چر نہ سکے۔ تَفِرَةُ الشجر: درخت کی کونپلیں۔

۲۔ اَتْفَرَ الرجلُ: کے ناک کے بالوں کا ہونٹ کے گڑھے تک لمبا ہونا۔ التِفْرَة و التُفْرَة و التُفَرَة: اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔ التَافِر و التَفِیر و التُفْران من الرجال: میلا اور گندہ آدمی۔

۳۔ التُفْرُوق: خرما کا غلاف۔

○ تُفُكَة جمع تُفَك: بندوق، رائفل۔

تفل: ۱۔ تَفَلَ ۔ تَفْلًا: تھوکنا۔ التُفْل و التُفَال: تھوک، جھاگ، پھیں، کف، فضلہ، میل۔ المِتْفَلَة جمع مَتَافِل: پیک دان، اگالدان۔

۲۔ تَفِلَ ۔ تَفَلًا الرجلُ: تیل اور خوشبو نہ لگانے کی وجہ سے بدبودار ہونا۔ صفت تَفِل مونث تَفِلَة و مِتفال۔ اَتْفَلَ ہ: کو بدبودار کرنا۔

۳۔ التُتْفُل و التَتْفُل و التِتْفَل (ح): لومڑی۔

○ تُفُل و تُفَال: تھوک، لعاب دہن۔ تَفِل: بدبودار۔

تفہ: تَفِہَ ۔ تُفُوهًا الرجلُ: کم عقل ہونا۔ صفت: تَافِہٌ۔

۲۔ تَفِہَ ۔ تَفَاهَةً الطعامُ: کھانے کا بے مزہ ہونا۔ تَفِہٌ و تَافِہٌ: بے مزہ چیز یا کھانا۔

۳۔ تَفِہَ ۔ تَفَهًا و تُفُوهًا الشیءُ: کم ہونا، خسیس ہونا، حقیر ہونا۔ کہا جاتا ہے: تفہ عطاءُ فلان: فلاں شخص کی داد و دہش کم ہے۔ اَتْفَہَ الشیءَ: کو کم کرنا، تھوڑا دینا۔ کہا جاتا ہے: اَعطیتَ فاَتْفَهْتَ: تم نے دیا مگر کم دیا۔

○ تَفِہَ ۔ تَفَهًا و تَفَاهَةً و تُفُوهًا: تھوڑا ہونا، کم ہونا، معمولی سا ہونا، بے حقیقت ہونا، غیر اہم ہونا، بے مزہ ہونا، بے لطف ہونا، پھیکا ہونا، بے کیف ہونا۔ [illegible]

فضول بات، غیر اہم ہونا۔ تَفَاهَة: معمولی چیز، معمولی ہونا، بے حقیقی غیر اہم ہونا، بے مزہ ہونا، بے لطف ہونا، بے کیف ہونا، پھیکا ہونا، حماقت، بے وقوفی، سادہ لوحی۔ تَفِہ و تَافِہ: تھوڑا، معمولی سا، معمولی، غیر اہم، یونہی سا، بے کار، ناکارہ، فضول، عام، اوسط درجے کا، بے مزہ، بے لطف، بے کیف، فرسودہ، پامال، پیش پا افتادہ۔ تَافِہَة جمع تَوَافِہ: بے کار، فضول یا ناکارہ چیز، معمولی چیز، فضول بات۔

تقن: اَتْقَنَ الأمرَ: کو مضبوطی سے کرنا۔ تَقَّنَ الارضَ: زمین کو کیچڑ والے پانی سے سیراب کر کے طاقتور بنانا۔ التِقْن: حوض کا بچا ہوا گدلا پانی، خشک ہو کر ٹڑخا ہوا گارا، طبیعت، کہا جاتا ہے: الفصاحةُ من تِقْنِہ: فصاحت اس کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ التِقْنِیَّة (ا ع): تکنیک، فنی قابلیت، صنعت گری، طریق کار، آداب فن، اصول فن۔

○ اَتْقَنَ ہ: کی تکمیل کرنا، کے نقائص دور کرنا (زبان وغیرہ) کا استاد ہونا، پر حاوی ہونا، پر کمال حاصل کرنا، پر عبور ہونا، کو اچھی طرح جاننا، میں ماہر ہونا، کا کاریگر ہونا، میں منجھا ہوا ہونا، مشاق ہونا۔ تِقْن: ماہر، ہنرمند، مشاق، آزمودہ کار، پھرتیلا، چابکدست، چالاک ہوشیار، مستعد۔ تَقَانَة: مضبوطی، استواری، پختگی، تکمیل، لیاقت ہنر، کامل نمونہ۔ اَتْقَن: زیادہ مکمل، زیادہ پورا، زیادہ پکا۔ اِتقان: تکمیل، پختگی، کمال، مکمل ہونا، درستی، صحت، بڑی صحت، پوری مہارت، مہارت، کمال، عبور، قبضہ، اقتدار (کسی خاص شعبہ وغیرہ میں)۔ فی غایة الاتقان: انتہائی طور پر کامل، عمدہ کاریگری یا صناعی کا۔ مُتْقَن: کامل، مکمل، بالکل ٹھیک، بے کم و کاست، بہت محتاط، درست، چاق و چوبند، تلا، ہوشیار۔

تقي: دیکھو وقی۔

تلّ: ۱۔ تَلَّ ۔ ہ النبیذُ: کو نبیذ کا مدہوش کر دینا۔

۲۔ تَلَّ ۔ تَكًّا ہ: کو روندنا، کچل دینا، پامال کرنا۔

۳۔ تَلَّ ۔ تُكُوكًا الرجلُ: لاغر ہونا، احمق ہونا صفت تَاكّ جمع تاكّون و تككة و تكاك و تُكُك:

۴۔ استتكَّ التِكَّةَ: پاجامہ میں ازار بند ڈالنا۔ التِكَّة جمع تِكَك: ازار بند۔ المِتَكّ: پاجامہ میں ازار بند ڈالنے کی سلائی۔ عام لوگ اسے مِدَكّ کہتے ہیں۔

○ تَكَّ: گھنٹہ کا ٹک ٹک کرنا، گھڑی کا ٹک ٹک کرنا۔ تِكَّة جمع تِكَّات: گھڑی یا گھنٹے کی ٹک ٹک۔ ٹلٹک کی آواز۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تکا: دیکھو وکا۔

تکت: ۱۔ تَکْتَكَ تَكْتَكَةً ہ: کوروندکر کچل دینا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ــــ ت الساعةُ: گھڑی کا ٹک ٹک کرنا۔

۲۔ التَکْتِیك او التَکْتِیَّة: کسی کام کی کامیابی کے لئے اختیار کردہ وسائل و ذرائع۔ (ا ع): فوجوں کی نقل و حرکت کی تنظیم کا فن۔

○ تَكْتَكَ: بلبلے اٹھانا، بلبلے کی آواز پیدا کرنا، آہستہ آہستہ کھولنا، ابلنا۔

○ تكتيك: فوجی نقل و حرکت۔ موقع کے لحاظ سے فوجی چال، جنگ کے داؤ پیچ اور چالیں۔ جوڑتوڑ (tactics)۔

تکنی: التِكنِيك او التِقْنِيَّة: کسی فن یا علم کا کام۔ کسی فن یا پیشہ سے متعلق تمام طریقے۔

○ تكِيَة جمع تكايا: خانقاہ، صومعہ، ڈیرہ، دھرم سالہ، محتاج خانہ، معذوروں کے لئے پناہ گاہ۔

تکل: تكَلَ: دیکھو وکل۔

تلّ: ۱۔ تَلَّ ـُ تَلًّا ہ: کو پچھاڑنا یا گردن اور رخسار کے بل گرانا۔ التَلَّة و التِلَّة: گرنے کی حالت۔ کہا جاتا ہے: رَمَاهُ بِتَلَّةِ سوءٍ: اس نے اس پر برے فعل کی تہمت لگائی۔ التَلِيل جمع تَلْيٰ: پچھاڑا ہوا۔ ـــ جمع اَتِلَّة و تُلُل و تلائل: گردن۔ المِتَلّ: وہ چیز جس سے کسی کو پچھاڑا جائے (کہا جاتا ہے: رمحٌ مِتَلٌّ: سیدھا اور سخت نیزہ) قوی اور مضبوط آدمی یا اونٹ۔

۲۔ تَلَّ ـُ تلًّا الشيءَ اليه: کو کی طرف دھکیلنا یا پھینکنا۔ ـــ الشيءَ في يده: کو کے ہاتھ میں رکھنا۔ ـ الحبلَ في البئر: کنویں میں رسی لٹکانا۔

۳۔ تَلَّ ـِ اليد: کے سامنے عاجزی کرنا، گڑگڑانا۔

۴۔ اَتَلَّ الدابّةَ: جانور کو باندھنا، لیجانا (ضد)۔

۵۔ التَلّ جمع تِلال و تُلُول (واحد تَلَّة)۔ من الارض: ٹیلہ۔ التِـــلَّة: حالت۔ التَلاَل و التَلاله: گمراہی۔

○ تَلّ جمع تِلال و اَتْلال و تُلول: پہاڑی، بلندی، ارتفاع۔ تَلّ ابيب: مغربی اسرائیل کا ایک شہر۔ تُلّ: نقاب کے لئے نرم جالی کا کپڑا۔

تلا: اتْلَأَبَّ اتلئبابا الامرُ: کام کا درست ہونا، سیدھا ہونا۔ ـــ الحمارُ: گدھے کا سر و سینہ اٹھانا۔ ـــ الطريقُ: راستہ کا لمبا اور سیدھا ہونا۔ مُتْلَئِبّ: قياسٌ مُتْلَئِبٌّ: ایک ہی قسم کا قیاس۔ طريق مُتْلَئِبّ: لمبا اور سیدھا راستہ۔

○ تَلاتِل: سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں۔

تلب: التَلَب: نقصان۔ کہا جاتا ہے: تَبًّا لَهُ و تَلْبًا: اللہ تعالیٰ نقصان و ہلاکت اس کے لئے لازم کردے۔

المَتالِف: ہلاکت کی جگہیں، قتل گاہیں۔

تلد: تَلَدَ ـِ و تَلِدَ ـَ تُلُودًا في القوم و بالمكان: کسی قوم یا جگہ میں قیام پذیر ہونا۔ کہتے ہیں: تَلَدَ فلانٌ عندنا: فلاں شخص کے ماں باپ ہمارے گھر میں پیدا ہوئے۔ تَلَدَ ـُ تُلُودًا المالُ كالابل و الغنم: مال مویشی، قدیم اور موروثی ہونا۔ صفت تَالِد و تَلْد و تُلْد و تَلَد و تِلاد و تَلِيد: (اس کی ضد طارف ہے)۔ تَلَّدَ: مال جمع کرنا۔ اتْلَدَ الرجلُ: موروثی مال والا ہونا۔

○ تَلِيد و تَالِد و تِلاد: موروثی، قدیم اور مقدس قدیم (قبضہ، جائداد)

تلس: التِلِسكُوب: دوربین۔ (عربی میں اسے مرقب کہتے ہیں)۔

تلع: ۱۔ تَلَعَ ـَ تَلْعًا و تُلُوعًا النهارُ: دن چڑھنا۔ ـــ ت الضحى: چاشت کا وقت ہونا۔ ـــ الرجلُ او الظبيُ: آدمی یا ہرن کا سر باہر نکالنا۔

۲۔ تَلِعَ ـَ تَلَعًا و تَلاعَةً الرجلُ: لمبی گردن یا لمبے قد والا ہونا صفت: اَتْلَع و تَلِيع۔ ـــ ت عنقُهُ: کی گردن کا دراز ہونا۔ اتْلَعَ و تَتَالَعَ و تَتَلَّعَ في مشيته: چلنے میں گردن لمبی کرنا۔ التَلِع: ارد گرد بہت دیکھنے والا۔ التَلْعَة جمع تَلَعات و تِلاع و تَلَع: بلند زمین، پست زمین (ضد)۔

۳۔ تَلِعَ ـَ تَلَعًا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ التَلِع من الآنية: بھرا ہوا برتن۔

○ اَتْلَعَ: اپنی گردن لمبی کرنا۔ ـــ ہ: کو گردن اٹھا کر دیکھنا۔ تَلْعَة جمع تِلاع: پہاڑی، ٹیلا، تودہ، پہاڑی کا پہلو، پہاڑ کا پہلو، تند و پرشور یا تیز دھارے والی ندی، نالہ یا دریا۔ تَلِيع: لمبا، باہر کو پھیلا ہوا، بڑھا ہوا، اونچا۔

تلغ: التِلِغراف: ٹیلیگراف، ٹیلی گرام، تار کیبل۔ اَرْسَلَ تلغرافًا إلى: کو تار بھیجنا۔ تِلِغرافي: تار کا، ٹیلیگراف کا، ٹیلیگرام کا یا کے متعلق۔

تلف: ۱۔ تَلِفَ ـَ تَلَفًا: ہلاک ہونا، تلف ہونا۔ اَتْلَفَ ہ: کو ہلاک کرنا، تلف کرنا، فنا کرنا۔ التَلِيفَة: ہلاک ہونے والی چیز، تلف ہونے والی چیز۔ المَتْلَف و المَتْلَفَة جمع مَتالِف: تلف اور ہلاک ہونے کی جگہ یا اس کا سبب، چٹیل میدان۔ المِتْلاف و التَلاّف: بہت تلف کرنے والا۔

۲۔ تَلْفَنَ: بذریعہ ٹیلیفون بات کرنا، ٹیلیفون کرنا۔ التِلِفُون: ٹیلیفون، عربی میں اس کے لئے ہاتف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔

تلفز: تِلِفِزْيُون: ٹیلی ویژن کا عربی تلفاز ہے۔ التلفزة: دور سے دیکھنا، دور نمائی۔

○ تَلْفَزَ: ٹیلی وژن پر نشر کرنا، دور نمائی کرنا۔ تَلْفَزَة: دور نمائی، ٹیلیویژن۔ إذاعةٌ تلفزية: ٹیلی کاسٹ telecast۔ ٹیلیویژن براڈکاسٹ۔ ٹیلیویژن پر نشر کرنا۔ تِلْفاز: ٹیلیویژن سیٹ television set۔ تِلِفِزْيُون: ٹیلیویژن۔

○ تَلْفَنَ: ٹیلیفون کرنا۔ تِلِفون و تَلِيفُون: ٹیلی فون۔

○ تَلِفَ ـَ تَلَفًا: نیست و نابود ہونا، تباہ ہونا، کو نقصان پہنچنا، تلف ہونا، برباد ہونا، ٹوٹنا، ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ تَلَّفَ ہ: کو برباد کرنا، تلف کرنا۔ ـ ہ: کو ختم کر دینا، تھکا دینا۔ اَتْلَفَ ہ: کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، تباہ کرنا، نقصان پہنچانا، خراب کرنا، تلف کرنا، توڑنا، ضائع کرنا۔ تَلَف: تباہی، بربادی، نقصان، ضرر، خسارہ، ضیاع۔ تَلِفان: خراب کیا ہوا، تلف شدہ، بے کار، ناکارہ، فضول، ناکارہ شخص۔ مَتْلَف و مَتْلَفَة جمع مَتالِف: ریگستان، بیابان۔ مِتْلاف: نکما، نکھٹو، فضول خرچ، کھنڈر، نقصان دہ، ضرر رساں، مضر اِتلاف جمع اِتْلافات: تباہ کاری، بربادی، تباہی، فناء کامل، ضرر، نقصان۔ تالِف: تباہ کیا ہوا، نقصان زدہ، ٹوٹا ہوا، خراب کیا ہوا، برا۔ مَتْلُوف و مُتْلَف: تباہ شدہ، نقصان پہنچایا ہوا، ٹوٹا ہوا، خراب کیا ہوا، برا۔ مُتْلِف: نیست و نابود کرنے والا، تباہ کن، نقصان دہ، کھنڈر، ضرر رساں۔

تلم: ۱۔ التَلَم جمع اَتْلام: ہل کی بنائی ہوئی لکیر۔ التِلْم جمع تِلام: لڑکا، کاشتکار، سنار، سنار کی لمبی دھونکنی۔

۲۔ التَلْمُود: یہودی کی دینی احکام پر مشتمل کتاب۔

۳۔ تَلْمَذَ و تَتَلْمَذَ الولدَ: لڑکے کو شاگرد بنانا۔ ـــ لفلان: کا شاگرد ہونا۔ التِلْمِيذ جمع تَلامِيذ و تَلامِذَة: شاگرد۔

○ تَتَلْمَذَ ل/على: کا شاگرد یا کارآموز ہونا یا ہو جانا، سے علم یا تربیت حاصل کرنا۔ تَتَلْمَذَ ل/على يده: کا شاگرد ہونا، کے ماتحت بطور شاگرد کام کرنا۔ تَلْمَذَة: ایام مدرسہ، کالج کے سال، شاگردی، آزمائشی مدت۔ تَلْمَذ: علم و فضل، تبحر علمی۔ تِلْمِيذ جمع تَلامِيذ و تلامذة: شاگرد، طالب علم، کارآموز، آزمائشی (ملازم وغیرہ) تربیت پانے والا (trainee)، چیلا۔ تِلْمِيذ بَحْرِي: چیف وارنٹ chief warrant W-3 (ایک بحری مرتبہ)۔ تِلْمِيذَة جمع تِلْميذات: طالبہ علم۔

○ تِلِمْسان: شمال مغربی الجیریا کے ایک شہر کا نام۔

تلن: التَلُنَّة و التَلُونة: حاجت، ضرورت۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تله: تَلِهَ ـ تَلَهًا: حیران ہونا۔ ـــه و تَلِهَ عنه: کو بھول جانا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ تَالِهُ العقل و مَتْلُوهُ العقل: زائل شدہ یا کھوئی ہوئی عقل والا۔ ـــ الشيءُ: تلف ہونا۔ أَتْلَهَ الشيءَ: کو تلف کرنا۔

○ تَلِهَ ـ تَلَهًا: حیران وششدر ہونا، متحیر ہونا، حیران ہونا، نہ جاننا کہ کیا کرے یا کہے۔ تَالِه و مُتَلَّه: نہ جاننے والا کہ کیا کرے یا کہے، حیران، پریشان، الجھن میں پڑا ہوا۔ تَالِهُ العقل: خیالات میں کھویا ہوا، پراگندہ دماغ، سراسیمہ، بٹے ہوئے خیال والا۔

تلا: ۱-تَلَا ـ تُلُوًّا ه: کے پیچھے چلنا۔ تَلَّى تَتْلِيَةً ه: کے پیچھے چلنا۔ تَالَى ه: کی تابعداری کرنا، موافقت کرنا۔ أَتْلَى ه: سے سبقت لیجانا۔ ـــ ه فلانًا: کو اپنے پیچھے چلانا۔ تَتَلَّى ه: کے پیچھے چلنا، پیچھے پڑنا۔ کہا جاتا ہے: تَتَلَّيتُ حقي: میں اپنے حق کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے پورا وصول کرلیا۔ تَتَالَتِ الامورُ او الخيلُ: ایک دوسرے کے بعد آنا، پے در پے آنا۔ کہا جاتا ہے: جاءت الخيل تَتَالِيًا: گھوڑے پے در پے آئے۔ اِسْتَتْلَى ه الشيءَ: کو پیچھے کرنے کو کہنا۔ التالي جمع تَالِيات۔ مونث التالية جمع التوالي: تابع۔ گھوڑ دوڑ میں چوتھے نمبر کا گھوڑا۔ التِلْو جمع أَتْلاء مونث تِلْوَة: ہر وہ چیز جو کسی چیز کے پیچھے ہو۔ اونٹنی کا دودھ چھڑایا ہوا بچہ، جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ التلو: ہمیشہ پیچھے چلنے والا۔ المُتَالِي: تابع (مو) گویے کی آواز میں آواز ملانے والا۔ التوالي: سرین۔ توالي الخيل: گھوڑے کے پچھلے حصے یعنی دم اور ٹانگیں۔

۲-تَلَا ـ تُلُوًّا عنه: کو چھوڑ دینا۔

۳-تلا فلانٌ بعد قومه: قوم کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ جانا۔ تَلِيَ ـ تَلًّى من الشهر يومٌ: مہینہ کا ایک دن باقی رہنا۔ أَتْلَى ه: کو پیچھے کرنا۔ ـــ و تَتَلَّى حقَّه عِندَه: اس کے پاس اپنے حق میں کچھ باقی رکھنا۔ التُلاوَة و التَلِيَّة: بقیہ۔ جیسے: تُلاوَةُ الدين: قرض کا بقیہ۔ کہا جاتا ہے: ذهبت تَلِيَّةُ الشباب: جوانی کا بقیہ جاتا رہا۔ فلانٌ بقيةُ الكرام و تَلِيَّةُ الأحرار: فلاں شخص بزرگوں اور شرفاء کی یادگار ہے۔

۴-تَلَا ـ تِلاوَةً الكتابَ: کتاب پڑھنا۔

۵-تَلَّى الرجلُ: نذر پوری کرنا۔ آخری سانسوں میں ہونا، مرجانا۔

۶-أَتْلَى ه على فلان: کو فلاں کے حوالے کرنا۔

۷-أَتْلَى ه ذِمَّةً: کو ذمہ دینا۔ التَلَا: ذمہ، حفاظت کا عہد، قرابت، قرب، ہمسائیگی۔

۸-تَتَلَّى الرجلُ: بہت مال جمع کرنا۔ التَلّي: بہت مالدار، بہت قسمیں کھانے والا۔

۹-اِسْتَتْلَى ه: کا انتظار کرنا۔

○ تلا ـ تُلُوًّا: پیچھا کرنا، بعد آنا، بعد کو ہونا۔ ـ تِلاوَةً ه على: کو کوئی چیز پڑھ کر سنانا۔ ـــ ه: کو زبانی سنانا، سنانا۔ تَتَالَى: ایک دوسرے کے پیچھے آنا، لگا تار ہونا، مسلسل ہونا، پے در پے ہونا۔ تِلْوَ: بعد، پر۔ ارسل كتابًا تِلْوَ كتاب: خط کے بعد خط بھیجنا۔ تِلاوَة: پڑھنا، پڑھ کر سنانا، سنانا، زبانی، سنانا، نغمہ سرائی۔ تَال: حسب ذیل، ذیل کا بعد میں آنے والا، بعد کا، اگلا، قریب ترین۔ بالتالي: تب، پھر، بعد میں، بعد ازاں، اس لئے، اس سبب سے، اس وجہ سے، لہٰذا چنانچہ، اندریں حال۔ مُتَتَالٍ: مسلسل، پیہم، متواتر، لگا تار، سلسلہ وار۔

○ تِلّي: نقاب وغیرہ کے لئے، نرم جالی کا کپڑا۔

○ تِلِپاتي: ٹیلی پیتھی، اشراق، تعلق ذہنی، ایک ذہن کا اثر کسی مادی وسیلہ کے بغیر دوسرے ذہن پر ہونا، ٹیلی پیتھی کے متعلق، ٹیلی پیتھی کا۔

○ تَلِيس و تِلِّيس جمع تلاليس: بورا، تھیلا، گٹھا۔

تمّ: ۱-تَمَّ ـ تَمًّا و تِمًّا و تُمًّا و تَمَامًا و تِمامًا و تُمَامًا و تَمَامَةً و تِمَامَةً: کامل ہونا، پورا ہونا۔ ـ بِالشيءِ و عليه: کو پورا کرنا۔ ـــ على أمرِهِ: کو انجام دینا۔ تَمَّمَ هُ أَتَمَّ ه: کو پورا کرنا۔ ـــ القمرُ (فلك): بدر کامل ہونا۔ ـــ تِ الحُبلى: حاملہ کا جننے کے قریب ہونا، حاملہ کا پورے دنوں کا ہونا۔ تَتَامَّ القومُ: سب لوگوں کا آنا۔ اِسْتَتَمَّ الشيءَ: کو پورا کرنا، کی تکمیل چاہنا۔ التَمَام: (ت کی تینوں حرکتوں کے ساتھ لیکن ان میں فتح غالب تر ہے): کمال، جس سے کوئی چیز تمام کی جائے اور اس معنی میں تَمّ و تِمّ و تُمّ و تِمامَة و تَمامَة اس کی مثل ہیں۔ (فك) (فلك): لَيلةُ تمامِ القمر: چودھویں کی رات، بدر کی رات۔ کہا جاتا ہے: بدرُ تمامٍ و بدرٌ تمامٌ: چودھویں رات کا چاند۔ التَمِيم: پورے قد وقامت والا، مضبوط۔ التَتِمَّة: جس سے کوئی چیز پوری کی جائے۔

۲-تَمَّ ـ عنه العينَ: تعویذ باندھ کر نظر بد کو دور کرنا۔ تَمَّمَ المولودَ: بچہ پر تعویذ لٹکانا۔ التَمِيمَة جمع تَمَائِم و تَمِيمات: تعویذ۔ إماطة التمائِم: بڑے ہونے سے کنایہ ہے۔

۳-تَمَّ ـ إلى موضع كذا: کسی جگہ پہنچنا۔ تَمَّمَ ه: کو کسی مدت تک پہنچانا۔ تَمَّمَ على الجريح: زخمی کو مار ڈالنا۔ أَتَمَّ هُ: کو پورا لینا۔ ـــ إلى المحل: کسی جگہ کا قصد کرنا اور جانا۔

۴-التَمّ: بڑی بط۔ التِمّ: کلہاڑا۔ التُمامَة: بقیہ۔

۵-تَمْتَمَ تَمْتَمَةً في الكلام: جلدی جلدی بولنا اور بات کو واضح نہ کرنا۔ صفت: تَمْتَام۔ مؤنث: تَمْتَامَة۔

○ تَمَّ ـ: مکمل ہونا یا ہو جانا، ختم ہونا، کیا جانا۔ ـــ ل: سے، (کی جانب یا طرف سے) کیا جانا، انجام دیا جانا، بجالایا جانا، پورا کیا جانا۔ ـ: ختم ہونا، ختم کیا جانا یا ختم ہو جانا، واقع ہونا، ہونا، باعث ہونا، انجام دیا جانا، کیا جانا، وجود میں آنا، عمل میں آنا، پورا ہونا، پیدا ہونا، حاصل ہونا، کا متوقع نتیجہ نکلنا، حقیقت ہونا یا ہو جانا، دستیاب ہونا، موجود ہونا۔ ـــ على: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، کو جاری رکھنا، کرنا جاری رکھنا۔ تَمَّمَ و أَتَمَّ ه: کو مکمل کرنا، ختم کرنا، ٹھیک کرنا، آخری صورت دینا، خاتمہ پر پہنچانا، میں اضافہ کرنا، کو بڑھانا، کو پوری طرح بھر دینا، کو بجالانا، ماننا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کی تکمیل کرنا، کو کرنا، انجام دینا، پورا کرنا، حاصل کرنا۔ اِسْتَتَمَّ: مکمل ہونا، ختم ہونا۔ تَمَام: کمال، تکمیل، اختتام، تمام، سمو چاپن، کلیت، کاملیت، اتمام، پورا، سب، سارا، تمام، جملہ کامل، مکمل، پورا کا پورا، سب کا سب، سمو چا، بے کم و کاست، جوں کا توں، الگ، جدا، علیحدہ، الگ الگ، جدا جدا، علیحدہ علیحدہ، منفصل، آزاد، جداگانہ، مستقل۔ تَمامًا: مکمل طور پر، تمام کا تمام، سارا، یکسر، تمام تر، بالکل، پوری طرح، ایک حد تک، واقعی، ہاں بالکل ٹھیک۔ بَدرٌ تمامٌ و قمرٌ تمامٌ: پورا چاند۔ في تمامِ الساعة السادسة: ٹھیک چھ بجے۔ بتمامِ معنى الكلمة: لفظ کے پورے مفہوم میں۔ بالتمام: مکمل طور پر، یکسر، تمام تر بالکل، سارا، تمام کا تمام۔ أَتَمّ: مکمل تر، کامل تر۔ تَمِيمَه جمع تَمَائِم: تعویذ۔ تَتِمّة: اختتام، اتمام، تکمیل، تتمہ، اضافہ، ضمیمہ، وہ چیز جو کمی پوری کرنے کے لئے بڑھائی جائے۔ تتميم و إتمام: تکمیل، مکمل کرنا، مکمل یا کامل نمونہ، کمال، اتمام، تکمیل، کارروائی، بجا آوری، عملدرآمد، نفاذ، حصول، عمل پذیری، بروئے کار لانا۔ اِستتمام: اختتام، انتہاء، خاتمہ۔ تَامّ: مکمل، کامل، سب، سارا، تمام، صحیح سالم، نہایت، انتہائی، غائت، پوری قیمت کا، کھرا، خالص، کامل معیار معیاری، پورا صرف، اصلی، حقیقی۔ تُمْبَاك: ایرانی تمباکو (خصوصاً حقہ کے لئے)۔ تَمْتَمَ: ہکلانا، منہ ہی منہ میں کچھ کہنا، بڑبڑانا۔ ـــ ب: کو سرگوشی کے انداز میں سنانا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تمر: ا۔ تَمَرَ ـُ تَمْرًا و تَمْرَةً: کو کھجور کھلانا۔ تَمَّرَ الرُّطَبُ: خشک کھجور ہونا۔ ـ تِ النخلة: درخت خرما کا پھلدار ہونا۔ اَتْمَرَ القوم: لوگوں کا بہت کھجوروں والا ہونا۔ التَّمْر واحد تَمْرَة جمع تَمَرات و تُمُور و تُمْران (ن): خشک کھجور۔ التَّمْرُ الهِنْدِي (ن): املی، املی کا درخت۔ التَّامِر: بہت کھجوروں والا، یا جس کے پاس کھجوریں ہوں۔ التَّمَّار: کھجوریں بیچنے والا۔ المُتَمَّوْر: کھجور کا توشہ دیا ہوا۔

۲۔ تَمَرَ ـُ تَمْرًا و تَمَّرَ اللحمَ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر سکھانا۔ تَتَمَّرَ اللحمُ: چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کئے ہوئے گوشت کا خشک ہونا۔

۳۔ التَّامُورِيّ و التُّؤْمُورِيّ: انسان۔ کہا جاتا ہے: ما بالدار تأمُور او تُؤمُور: گھر میں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی شے۔

○ تَمَرجي و تمورجي و تيمارجي و تومرجي جمع تمرجيا: تیماردار، ہسپتال کا خدمت گار، خدمت گزار۔ تمرجيه جمع تمرجيات: خاتون تیماردار، نرس۔

تمز: تَمُّوز و تَمُوز: جولائی (مہینہ کا نام)۔

تمس: تِمْساح جمع تَماسيح (ح): گھڑیال، مگر، نہنگ، مگرمچھ۔

○ تَمْغَة: ٹھپہ، اسٹامپ، مہر، چھاپ۔ وَرَقُ تَمْغَة: اسٹامپ، اسٹامپ لگا کاغذ۔

○ تَمَّن: چاول۔

تمه: تَمِهَ ـَ تَمَهًا و تَمَاهَةً الطعامُ: کھانے کا بدبودار یا بدمزہ ہونا۔ صفت: تَمِه۔

تن: ا۔ تَانَّ بينهما: دو کے درمیان مقابلہ کرنا، اندازہ کرنا۔ التِّنّ جمع اَتْنان: مثل، ہمسر، شخص۔

۲۔ اَتَنَّ المرضُ الصبيَّ: بیماری کا بچہ کو بڑھنے سے روک دینا۔ صفت مفعولی: تِنّ: (بچہ جسے بیماری نے بڑھنے سے روک دیا ہو)۔ ـ الرجل: دور ہونا۔

۳۔ التِّنّين جمع تَنانين (ح): مچھلی، اژدھا (فک) آسمان میں ایک جگہ کا نام۔ التِّنّ (ح): مچھلی کی ایک مشہور جنس، جس کے پر خاردار ہوتے ہیں۔

۴۔ التَّنُّوب واحد التَّنُّوبة (ن): ایک جنگلی درخت صنوبر کی قسم کا جو آرائش کے لئے باغوں میں اگایا جاتا ہے۔

۵۔ التَّنُّور جمع تَنانير: تندور۔ التَّنُّورة و التَّنُّوريّة: دامن۔

○ تَنُّورة: سکرٹ (skirt)۔

○ تنس: ٹینس (tennis)۔

تنأ: تَنَأ ـَ تُنُوءًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا، صفت: تانِئ جمع تُنّاء (مقیم، رہنے والا، پابند سکونت، رہائشی)۔

تنب: ا۔ التَّنْبَك (ن): حقہ کا تمباکو (اسے تنباک بھی لکھا جاتا ہے)

۲۔ التِّنْبَل و التِّنْبال و التِّنْبُول و التِّنْبالة جمع تَنابيل و تنابلة: پستہ قد، کند ذہن، ست۔ التَّنْبَل و التَّانْبُول (ن): پان (جو چونا کتھا، چھالیہ وغیرہ کے ساتھ چبایا جاتا ہے)۔

○ تَنْبَر جمع تَنابِر: ٹھپہ۔ مُتَنْبَر: ٹھپہ لگا ہوا۔

تنج: التَّنْجستين: ایک خاکستری دھات جو برقی قمقموں میں پتی کے طور پر اور فولاد بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹنگسٹن (tungsten)۔

۲۔ التَّنْجَرَة: ہانڈی، دیگ (ترکی لفظ)

○ تَنْدَة: سائبان، شامیانہ، سقف بندی۔

تنخ: تَنَخَ ـُ تُنُوخًا و تَنْخًا و تَتَنَّخ بالمكان: کسی جگہ قیام کرنا، رہنا، آباد ہونا۔ تَنِخَ ـَ تَنَخًا: بدہضمی ہونا۔ اَتْنَخَ ه: کو بدہضمی میں مبتلا کرنا۔

تنض: التَّنَضُّب: دیکھو نضب۔

تنف: التَّنُوفَة و التَّنُوفِيَّة جمع تَنائِف: بے آب ریگستان، سنسان جگہ۔

تنك: التَّنَك (ك): ٹین۔ التَّنَكْجِي: ٹین ساز۔

○ تينس: ٹینس (tennis)

○ تَنين: شاہ بلوط کی چھال، کتا (tannin)، کتے کا تیزاب، شاہ بلوط کی چھال کا تیزاب۔

تهت: تَهْتَهَة: فضول باتوں میں مشغول ہونا۔ التَّهاتِه: لغویات۔

○ تَهْتَهَة: ہکلانا، تتلانا، رک رک کر بولنا۔

تهم: ا۔ تَهِمَ ـَ تَهَمًا اللحمُ: گوشت کا خراب ہونا صفت: تَهِم۔ التَّهَمَة: بدبو۔

۲۔ اَتْهَمَ و تَاهَمَ و تَتَهَّمَ: تہامہ میں آنا یا اترنا۔ تِهامة: مکہ معظمہ، حجاز کے جنوبی علاقے نسبت کے لئے: تَهامِيّ و تَهام جمع تِهامِيُّون و تَهامُون

۳۔ اِتَّهَمَ و تُهْمَة: دیکھو وہم۔

○ تُهْمَة جمع تُهَم: الزام، شبہ، درپردہ الزام لگانا۔

تهن: تَهِنَ ـَ تَهْنًا: سونا صفت: تَهِن

تها: تَهَا ـُ تَهْوًا: غافل ہونا۔ التِّهْوَاء: رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے: مضى تهواء من الليل: رات کا ایک حصہ گزر گیا۔

تو: التَّوّ جمع اَتْواء: اکیلا، ایک لڑی کی بٹی ہوئی رسی۔ جاء تَوًّا: وہ قصد کرکے آیا کوئی چیز [illegible]

○ تَوًّا: فورا، بلا تاخیر، ابھی ابھی۔ لِلْتَّوِ فورًا: بلا تاخیر۔ لِلتَّوِي، لِتَوِّها: میں نے ابھی، اس عورت نے ابھی یا فورا، بلا تاخیر۔

○ تُوَالِيت: پاخانہ، بیت الخلاء، سنگار۔

تاب: تَابَ ـُ تَوْبًا و تَوْبَةً و تابَةً و مَتابًا و تَتْوِبَةً اِلَى اللّٰه: گناہ سے روگردانی کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، نادم و پشیمان ہونا، صفت: تائِب۔ ـ اللّٰهُ عليه: اللہ تعالیٰ کا کسی کے گناہ معاف کرکے اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازنا۔ صفت: تَوَّاب۔ اِسْتَتابَ ه: کو توبہ کرنے کی ترغیب دینا۔

○ تابَ ـُ تَوْبًا و تَوْبَةً و مَتابًا: پچھتانا، پشیمان ہونا، توبہ کرنا، تائب ہونا، نادم ہونا۔ ـ عن: (گناہ) سے روگردانی کرنا، (کسی چیز) کو ترک کرنا، سے دوسری حالت میں بدلنا، سے الگ ہو جانا، قطع تعلق کرنا۔ ـ على: اللہ تعالیٰ کا کسی کو معاف کر دینا، بخش دینا، پر اپنا لطف و کرم بحال کرنا۔ تابَ اِلَى اللّٰه: پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ تَوَّبَ ه: کو پشیمانی یا توبہ پر اکسانا، کو نادم کرنا۔ اِسْتَتابَ ه: سے پچھتانے کا تقاضا کرنا۔ تَوْبَة: پچھتاوا، پشیمانی، توبہ، ندامت، کفارہ۔ تَوَّاب: کفارہ ادا کرنے والا، پشیمان، نادم، منفعل، تائب، نادم، شرمسار، متاسف؛ معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا، مہربان، رحیم و کریم (اللہ تعالیٰ)۔ تائِب: پشیمان، نادم، منفعل، تائب، شرمسار، متاسف۔

○ تُوبُوغرافِيا: تذکرۃ البلاد، جغرافیائی مطالعہ، جغرافیائی خصوصیات (topography)۔

توت: ا۔ التُّوت (ن): توت کا درخت، توت۔ تُوتُ العُلَّيق: جنگلی توت۔ تُوتُ الارض: سٹابری (strawbery)۔

۲۔ التُّوتِيا (ك): ایک قسم کا پتھر جس سے سرمہ بنایا جاتا ہے۔ ـ المعدنية: جست۔ التوتيا (ح): ایک خاردار سمندری سیپی جس کے اندر انڈے کی زردی کی مانند کوئی چیز ہوتی ہے۔

○ تُوت: شہتوت کا درخت، شہتوت۔ توتٌ ارضيٌّ و تُوتٌ اِفْرَنْجي: سٹابری۔ توتٌ شَوْكِيٌّ و تُوتُ العُلَّيق: رس بھری (rospberry)۔

تُوت: قدیم مصری جنتری کا پہلا مہینہ۔

○ تُوتيا و تُوتِياء و توتِية: جست

تاج: تَاجَ ـُ تَوْجًا: تاج پہننا۔ تَوَّجَ ه: کو تاج پہنانا۔ تَتَوَّجَ: تاج پہننا۔ التَّاج جمع تِيجان: تاج۔ تاجُ العمود (ب): ستون کے بالائی حصہ کی مینا کاری۔ تاجُ الجَبّار (فلك): ستارے و تارے۔ التّائِج: تاج دار۔ التَّوِيج (ن):

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پھول کا اندرونی غلاف۔ التُّوَيْجِيَّة او القُعالہ: پھول کے اندرونی غلاف کا پتوں کا ہر قطعہ جس کی تعداد پھلدار نباتات میں پانچ ہوتی ہے اور بنیاد کے قریب دوسرے قطعہ سے جدا ہو جاتا ہے۔

○ تَوَّجَ ہ ب: کے بالائی حصہ کو سے ڈھکنا۔ تـاج جمع تِيجان: تاج، لاٹ پادری کی ٹوپی۔ تـاج العمود: ستون کا بالائی حصہ یا مینا کاری۔ تُوَيج: چھوٹا تاج، مکٹ۔ تـتـويـج: تاج پوشی، رسم تاج پوشی۔

○ تـوجو اور تـوجولنڈ: ٹوگو (Togo) (مغربی افریقہ کے ایک علاقہ کا نام)۔

تاح: تَاحَ ـ تَوْحًا لهُ الشيءُ: کے لئے تیار ہونا۔

تاخ: تَاخَ ـ تَوْخًا و تُوُخًا: تاخت الاصبعُ في الجسم الوارم او الرخو: انگلی کا سوجے ہوئے جسم یا نرم حصہ بدن میں دھنس جانا۔

تود التُّودَرِي و التُّودُرِي (ن): لمبے تنے کا پودا جس کی ڈنڈیوں میں سیاہ لمبے بیج ہوتے ہیں۔ یہ قصیصہ کے نام سے معروف ہے۔ (فارسی لفظ)۔

تار: ا۔ تَارَ ـ تَوْرًا الماءُ: پانی کا جاری ہونا۔ اَتَارَ اِتَارَةً ہ: کو بار بار لوٹانا۔ التَّوْر: ایک قسم کا چھوٹا برتن، قاصد۔ التَّارَة: دیکھو تَارَ۔

۲۔ التوراة و التَّوْرِيَة جمع تَوْرات و تَوْرِيات: موسیٰ علیہ السلام کے پانچ اسفار، سارا عہد قدیم۔

○ تَارةً: ایک بار، بعض اوقات، کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ تارةً۔ تارةً و تارةً۔ طوراً تارةً۔ اخرى: کبھی ..... کبھی، کبھی کبھار، کبھی کبھار۔

○ تُورْبِيد: تارپیڈو، آبدوز گولہ (torpedo)۔

تُورْبِين جمع تورْبِينات: چرخ ٹربائن turbine۔

○ تُورْتَة جمع تورتات: نکیہ شامی کباب، مربے والی پیسٹری۔

تاز: تَازَ ـ تَوْزًا الشيءُ: سخت ہونا۔

تاف: تَافَ ـ تَوْفًا البصرُ: نگاہ کا چندھیا جانا۔ التَّافَةُ و التَّوفَةُ و التُّوفَةُ: عیب (کہا جاتا ہے: مافيه تُوفَةٌ: اس میں کوئی عیب نہیں) گناہ۔

تاق: تَاقَ ـ تَوْقًا و تُوُوقًا و تَوقاناً و تَوَقَاناً و تِيَاقَةً ہ و اليه: کا شائق ہونا۔ ـــ الى الغاية: منزل مقصود کی طرف جلدی جانا، جلدی کرنا۔ صفت: تَائِق و تَوَّاق۔ ـ ت عينهُ بالدموع: کی آنکھ کا آنسو بہانا۔ ـ منه: سے ڈرنا۔ ـ بنفسه: جان دینا۔ تَتَوَّقَ الى الشيء: کا آرزو مند ہونا، شائق ہونا۔

○ تاق ـ تَوْقًا و تَوَقَانًا الى: کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، کا آرزو مند ہونا، متمنی ہونا، کا مشتاق ہونا، کی آرزو میں مرنا، کی التجا کرنا، کے لئے سخت کوشش کرنا۔ تـوق و تـوقان: آرزو و تمنا، اشتیاق، التجا خواہش۔ تَوَّاق: آرزو مند، متمنی، مشتاق، شوقین، سرگرم۔ تـائـق: بمعنی تَوَّاق۔

○ تُوَكَّة أمامِيَّة: پٹی کا بکلس۔

تـال: تـالَ يَتُولُ تَـوْلاً: جادو کرنا، جادو کا علاج کرنا۔ التُّولَة و التِّوَلَة: جادو اور جادو جیسے کام۔ التُّولَة و التُّولَة جمع تولات: مصیبت۔

○ تُول: نقاب وغیرہ کے لئے نرم جالی کا کپڑا۔

تـوم: التُّوم (ن): لہسن۔ التُّومَة جمع تُوَم و تُوم: بالی، شتر مرغ کا انڈہ، موتی کے مانند چاندی کا ایک دانہ۔ المُتَوَّم: کان میں بالی پہنے ہوئے، مالا پہنے ہوئے۔

○ تومرجی: دیکھو تمرجی۔

تـون: تَتَاوَنَ و تَنَاءَنَ الصيدَ: شکار پر کبھی دائیں اور کبھی بائیں سے حملہ کرنا۔

○ تُون و تُونَة: ایک قسم کی بڑی سمندری مچھلی جو بطور خوراک کھائی جاتی ہے۔ (tuna)

○ تُوتِج: کانسی۔

○ تُـونـس: تیونس (ایک ملک کا نام۔ تُـونُسِي جمع تونسيون و تَوَانِسَة: تیونسی (صفت و اسم)۔

○ تُونِيَة جمع تَوَانِي: پادریوں اور کلیسا کے دنیاوی کاموں کے منتظمین کا سفید لمبا لباس۔

تاہ: ا۔ تـاہَ ـ تـوهًا: ہلاک ہونا، ضائع ہونا۔ تَوَّهَ و اَتَاہَ ہ: کو ہلاک کرنا۔ التَّوْہ و التُّوہ جمع اَتْوَاہ و جمع الجمع اَتَاوِيه: ہلاکت۔

۲۔ تَاہَ ـ تَوْهًا: تکبر کرنا۔

۳۔ تَاہَ ـ تَوْهًا: راستہ سے بھٹک جانا، پریشان عقل والا ہونا۔ التُّوہ من الفلوات: وہ بیابان جس میں انسان راستہ سے بھٹک جائے۔

توی: تَـوِيَ ـ تَـوًى المالُ: ہلاک ہونا، برباد ہونا۔ صفت: تَـوٍ و تاوٍ۔ اَتْوَاہُ اللّٰہُ اِتْوَاءً: اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہلاک کرنا۔ التَّوى: ضائع ہونا، نقصان۔ کہا جاتا ہے: لا توى عليه: اسے کوئی نقصان و خسارہ نہیں۔ المَتْوَاة جمع مَتَاوٍ و مَتْوِيَات: سبب ہلاکت، باعث نقصان۔ کہتے ہیں: الشُّحُّ مَتْوَاةٌ: کنجوسی باعث نقصان و ہلاکت ہے۔

تیت: التِّيَاتْرو: تھیٹر (عربی میں مُمَثَّل لیکن مولدین کے نزدیک مَسْرَح)۔

○ تَيْتَل جمع تَيَاتِل: جنگلی بکرے کی ایک قسم۔

○ تِيتَانُوس: عضلات کا سخت تشنج، اکڑ بائی، کزاز (tetanus)۔

تاح: ا۔ تَاحَ ـ تَيْحًا في مشيه: چلنے میں جھکنا۔

۲۔ [illegible]

اَتَاحَ اِبَاحَةً ہ: کو تیار کرنا، مقدر کرنا۔ کہا جاتا ہے: اتاحَ اللّٰه له الشرَّ: اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے شر مقدر کر دیا۔ المُتَاح و المِتْيَاح: امر مقدر، فیصل شدہ امر۔

۳۔ التَّيَّاح و التِّيحان و التَّيِّحَان و التَّيْحَانُ المِتْيَح: بے جا دخل دینے والا۔ کہا جاتا ہے: رجل مِتْيَحٌ: ہمیشہ بلا (آفت) میں مبتلا آدمی۔

تاح ـ تيحاً ل: (قسمت یا خدا کی طرف سے) کسی کے لئے مقرر، کیا جانا، ٹھہرایا جانا، فیصلہ کیا جانا، مقدر کیا جانا۔ ـ ل: کو دیا جانا، عطا کیا جانا۔ اَتَاحَ ل ہ: کے لئے کسی بات کو مقدر کرنا، مقرر کرنا، ٹھہرانا، پہلے سے مقرر کرنا، کو کچھ عطا کرنا، بہم پہنچانا، کے لئے کی گنجائش نکالنا، کے لئے کو مقرر رکھنا، کو کچھ پیش کرنا۔

اُتِيحَ ل: کے لئے مقدر کیا جانا، کو عطا کیا جانا، دیا جانا۔ اُتِيحَ له التوفيق: وہ کامیاب ہوا، اس نے کامیابی کا منہ دیکھا۔ اُتِيحَ له الفرصةُ: اسے موقعہ دیا گیا، اسے موقعہ ملا۔

تـاخ: تـاخَ ـ تَيْخًا ہ: کو لاٹھی یا کھجور کی چھڑی سے مارنا۔ المِتْيَخَة: لاٹھی، کھجور کی چھڑی۔

تـاد: التَّيْد: نرمی۔ کہا جاتا ہے: تَيْدَكَ زيداً: زید سے نرمی کر۔ یہ اسم فعل ہے اور ک خطاب کا ہے۔

تار: تَارَ ـ تَيَرانًا البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا، جوش میں آنا۔ التَّيَّار: جوش زن سمندر کی لہر۔ التيارات الفكرية: فکری تحریکیں جو لہر کی طرح آگے بڑھتی ہوں۔ کہا جاتا ہے: قطع عرقًا تَيَّارًا: اس نے تیز بہنے والی رگ کو کاٹا۔ فرسٌ تَيَّارٌ: موج کی طرح دوڑنے والا گھوڑا۔ التيار الكهربائي: برقی رو، بجلی کا کرنٹ۔ التيار المتّصل: ڈائرکٹ کرنٹ۔ ـــ المتناوب: الٹی رو، بدلو روالے کی (بجلی) یہ رو گھروں کو روشن کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

۲۔ اَتَارَ ہ: کو بار بار لوٹانا۔ تارةً: دیکھو تار۔

۳۔ التِّير: تکبر و غرور۔ التَّيَّار: مغرور، متکبر۔

○ تَيَّار جمع تَيَّارات: بہاؤ، دھارا، رفتار، رو (کرنٹ)، سیلاب طغیانی، چڑھاؤ، آبشار، تحریک، رجحان، میلان، رخ، سمت، ٹھنڈی، ہوا کا بہاؤ، برقی رو۔ تيار مُبَاشِر و تيار مستمر: ڈائریکٹ کرنٹ۔ تيار مُتَنَاوِب و تيار متغير: آلٹرنیٹنگ کرنٹ، الٹی رو، بدلو رو۔ تيار متذبذب: باقاعدہ وقفوں میں طاقت یا سمت بدلنے والی رو، (oscillating current)۔ تيار نابض: مرتعش رو۔ تيار سريع التردد: ہائی فریکوئنسی کرنٹ۔ تيار بطيء التردد: لو فریکوئنسی کرنٹ (low frequency current)۔ تيار عالي

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الجَهْد: ہائی ٹینشن کرنٹ۔ تیار و اطئ الجَهد: لوٹنشن کرنٹ (low frequency current)۔ تَیّار ذَاتِی: سلف انڈیوسڈ کرنٹ (selfinduced current)۔

○ مَنار ڈ ینمو، جنریٹر (dynamo- generator)۔

تاز: تازَ - تَیْزًا و تَایَزَ ہ: پر غالب آنا۔ کہا جاتا ہے: تازَ السهمُ في الرمِیَّة: تیر نے شکار میں حرکت کی۔ التَّیّاز: پستہ قد، سخت جوڑوں والا۔

○ تَیزَة: خالہ یا ممانی۔

تاس: ۱۔ تَاسَ یَتِیسُ الجدیُ: بکری کے بچے کا بکرا بن جانا۔ تَایَسَتِ و اسْتَتْیَسَتِ العنزُ: بکری کا بکرے کی طرح ہوجانا۔ التَّیْس جمع تُیوس و اَتْیاس و تِیَسَة: بکرا ہرن، جنگلی بکرا۔ لحیۃ التیسس (ن) ایک قسم کی نبات۔ التَّیْسِیَّة و التَّیْسُوسِیَّة: بکرے جیسی طبیعت اور مشابہت۔ کہتے ہیں: فی فلان تیسیة او تیوسیة: فلاں میں بکرے جیسی طبیعت ہے۔ التَّیّاس: بکرے والا۔ الأَتْیَس: بکرے جیسا۔

۲۔ تَیَّسَ ہ عن کذا: کو سے باز رکھنا، روکنا۔ فرسہ: گھوڑے کو سدھانا۔ تَایَسَ ہ: کی مزاحمت کرنا۔ تَتَایَسَ الماءُ: پانی کی موجوں کا آپس میں ٹکرانا۔

○ تَیْس جمع اَتْیاس و تُیُوس: بکرا۔ أتْیَس: بے وقوف، دیوانہ، مخبوط۔

تاع: ۱۔ تاعَ - تَیْعًا و تَیَعًا و تَیَعانًا القيءُ: قے کا آنا۔ اَتاعَ ما اَکَلَهُ: کھائی ہوئی چیزوں کی قے کرنا۔ - الشيءَ: کو لوٹانا۔

۲۔ تاعَ - تَیْعًا و تَیَعًا و تَیَعانًا الماءُ: پانی کا بہہ کر سطح زمین پر پھیل جانا۔

۳۔ تاعَ - تَیْعًا الطریقَ: راستہ طے کرنا۔ - السمنَ: روٹی کے ٹکڑے سے گھی اٹھانا۔

۴۔ تاعَ - تَیْعًا و تَیَعًا و تَیَعانًا الیه: کی طرف جلدی کرنا، کا مشتاق ہونا۔ تَتَیَّعَ في الأمرِ: کسی کام پر اصرار کرنا۔ کہا جاتا ہے: انه یَتَتَایَعُ في الأمور: وہ اپنے آپ کو معاملات میں بے سوچے سمجھے ڈال دیتا ہے۔ - إلى الشرّ و تَتَایَعَ فيه: برائی کی طرف لپکنا اور تیزی کرنا۔ صفت: تَیِّع و تَیِّعان۔ - الریحُ بالورق: ہوا کا پتے اڑا لے جانا۔

○ تِیفُوس: پھول ماتا، ٹائیفس (typhus)۔ الحُمّیٰ التِّیفُودِیَّة: میعادی بخار (typhoid fever)۔

تاك: ۱۔ تاكَ - تَیْکًا: احمق ہونا۔ صفت: تائِك۔ اتَاكَ الشَعْرَ: بال اکھیڑنا۔

۲۔ تِیكَ: تاک کا مؤنث جمع اُولَیك: مونث متوسط کے لئے اسم اشارہ۔ تصغیر تَیّاك: اس پر ھائے تنبیہ داخل کر کے ھاتیک کہتے ہیں۔

تال: التِّیل (ن): سَن، پٹ سن، ریشہ دار پودا جس کے ریشوں سے رسے اور کپڑے تیار کئے جاتے ہیں۔ کتان۔

○ تَیَّلَ: تار دینا، تار کے ذریعے خبر بھیجنا، بحری تار دینا۔

○ تِیلَة: ریشہ، سوت، اون اور کپاس کا ریشہ، کپاس، اون۔

تام: ۱۔ تامَ - تَیْمًا و تَیَّمَہ الحُبُّ: محبت کا کسی کو غلام بنالینا، ذلیل کرنا۔ التَّیْمُ: غلام (کہا جاتا ہے: هو تیمُ اللّٰهِ: وہ اللہ کا بندہ ہے) (مص) عشق کے سبب عقل کا فتور۔ التَّیْماء: بیابان، جس میں انسان بھٹک جائے۔ کہا جاتا ہے: ارض تیماء: گمراہ کن اور مہلک بے آب و گیاہ اور بے آباد بیابان۔ ایک مقام کا نام۔

۲۔ التِّیمَة و التِّیْمَة: وہ بکری جو گھر میں ہی چرائی اور دوہی جائے۔ وہ بکری جو بھوک کی حالت میں ذبح کی جائے۔

○ تامَ - تَیْمًا: محبت سے غلام بن جانا، گرویدہ ہوجانا۔ - ہ: محبت کے ذریعے کسی کو اندھا تابع بنانا۔ تَیَّمَ ہ: محبت کا کسی کو غلام بنانا، گرویدہ بنانا، اندھا تابع بنانا، پاگل کردینا، لٹو کرنا، فریفتہ کرنا۔ مُتَیَّمٌ: غلام، گرویدہ (محبت کی وجہ سے) لٹو، فریفتہ۔

○ تَیماء: (شمال مغربی عرب کا ایک نخلستان)۔

○ تیمارجی: دیکھو تمرجی۔

تان: التِّین: واحد تِینَة (ن): انجیر کا درخت، انجیر۔ تِینُ البنغال: بنگالی انجیر کا درخت۔ المَتانَة: انجیر کا باغ، انجیر بکثرت پیدا ہونے کی جگہ۔ ارض مَتانَة: انجیر کا باغ۔ التَّیّان: انجیر بیچنے والا، انجیر خشک کرنے والا۔

○ تین (اسم جنس واحد تینة) انجیر کا درخت۔ تینٌ شوکی: انجیر۔

تیو: ۱۔ التِّیُوع (ن): ہر وہ سبزی جس کو کاٹنے پر سفید دودھ نکلے۔

۲۔ التِّیو قراطِیَة: دینی حکومت، ملائیت (theocracy)

تاہ: ۱۔ تاهَ - تَیْهًا: تکبر کرنا۔ التائِه و التَّیْهان و التَّیّاه و التَّیِّهان: متکبر۔ التِّیه جمع اَتْیاه و اَتاوِیه و اَتاوِهة: شیخی، لاف زنی، غرور۔

۲۔ تاهَ - تَیْهًا و تَیَهانًا: سرگشتہ پھرنا، راستہ بھٹکنا، گمراہ ہونا۔ صفت: تَیّاه و تَیْهان۔ تَیَّهَ و اَتاهَ ہ: کو گمراہ کرنا، ضائع کرنا۔ التِّیه جمع اَتْیاه و اَتاوِیه و اَتاوِهة: گمراہی، چٹیل میدان جس میں چلنے والا بھٹک جائے۔ ارضٌ تَیْهاءُ و مَتْیَهَةٌ و مَتِیهَةٌ و تَیْهٌ: وہ زمین جس میں لوگ اکثر راستہ بھٹک جائیں۔

○ تاهَ - تیها: کھو جانا، غائب ہوجانا، ادھر ادھر پھرنا، مارا مارا پھرنا، راستہ سے بھٹک جانا، راستہ گم کردینا (خیالات کا) بھٹکنا، - من: سے بچ نکلنا، کی یادداشت سے نکل جانا۔ - : ہلاک ہونا، تباہ ہوجانا، گم ہوجانا، حیران ہونا، حواس باختہ ہوجانا، ششدر ہونا، مغرور ہونا۔ - علی: سے تحکمانہ انداز اختیار کرنا، سے ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا۔ تَیْهَةُ علی وجهه ابتسامةٌ: اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں ہے۔ تَیَّهَ ہ: کو گمراہ کرنا، راہ سے بھٹکانا، کی توجہ ہٹانا، کو گھبرا دینا، کا رخ موڑنا، کو بوکھلانا، پریشان کرنا، حیران کرنا، الجھاؤ میں ڈالنا۔ اَتاه: بمعنی تَیَّهَ، تِیه: ریگستان، بیابان، بے سراغ صحراء، بھول بھلیاں، چکر، غرور، کبر، نخوت، تکبر، فخر و فخر و ناز، فخر و مباہات۔ تَیّاه: بھٹکنے والا، راستہ بھولا ہوا، بھٹکا ہوا، مارا مارا پھرنے والا، ادھر ادھر پھرنے والا، گم کردہ راہ، مغرور۔ تَیْهان: بھٹکا ہوا، راستہ بھولا ہوا، مارا مارا پھرنے والا، اِدھر اُدھر پھرتے والا پریشان، گومگو کی حالت میں، حیران الجھاؤ میں پڑا ہوا، مغرور، متکبر۔ تَیْهاء و مَتاهَة: بے سراغ اجاڑ، سنسان علاقہ۔ مَتاهَة: بھول بھلیاں۔ تائِه: بھٹکا ہوا، مارا مارا پھرنے والا، منہ اٹھائے پھرنے والا، آوارہ، گمراہ، جہاں گرد، خیالات میں کھویا ہوا، مستغرق، سراسیمہ، بٹے ہوئے خیال والا، پراگندہ دماغ، محو، کھویا ہوا، ناامید، مایوس، لامحدود، لامتناہی، مغرور۔

تیولیب: گل لالہ، شقائق (tulip)۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ث

ب تلفظ ثاء: حروف تہجی کا چوتھا اور حروف ابجد میں ۵۰۰ سے عبارت ہے۔

ثب ثبت: ثأبًا و ثئب و تثاءب: جمائی لینا صفت: مثئوب۔ الثأب و الثؤباء: جمائی۔ التثاوب: جمائی۔ ضرب المثل ہے: اعدی من الثؤباء۔

۲۔ تثاءب الأخبار: خبروں کی جستجو کرنا۔

ث ثانية (سیکنڈ) کا مخفف ہے۔ ثاء: حرف ث کا نام۔ ثؤباء: جمائی لینا، جمائی، تھکن، تھکاوٹ۔

ثاثا: ثاثا: پیاسا رکھنا، پانی پلانا۔ ۔ النار: آگ بجھانا۔ ۔ الغضب: غصہ ٹھنڈا کرنا ۔۔ د عن الأمر کو سے روکنا۔

ثأج: ثأج ۔ثأجات الغنم: بکری کا ممیانا۔ الثؤاج: بکری کی آواز۔

ثأد: ۱۔ ثئد ۔ثأدًا النبت: پودے کا تر و شاداب ہونا۔ ۔ الرجل او المکان: ٹھنڈا ہونا۔ صفت: ثئد و ثئید۔ الثأد و الثأد تری، شبنم، نمناک مٹی، ٹھنڈ۔

۲۔ الثأد و الثأد: برا کام، نرم و شاداب نبات۔ الثأدة: موٹی عورت۔ الثأدة: موٹاپا۔ الثأداء: لونڈی۔

ثأر: ثأر ۔ثأرًا القتيل و بالقتيل: مقتول کے خون کا مطالبہ کرنا۔ قاتل کو قتل کرنا۔ صفت: ثائر۔ کہا جاتا ہے: ثأره بكذا: اس نے فلاں کے ذریعے خون کا بدلہ لے لیا۔ ثئر زيد: زید سے خون کا بدلہ لیا گیا۔ أثأر و اثأر منه سے خون کا بدلہ لینا۔ إستثأر: خون کا بدلہ لینے کے لئے فریاد کرنا۔ الثأر ۔ الثؤرة جمع أثآر و آثار و ثئر: خون کا بدلہ، جرم کا بدلہ۔ کہتے ہیں: هو ثأرك: وہ تمہارے رشتہ دار کا قاتل ہے۔ یا ثارات فلان: اے فلاں کے قاتلو۔ الثأر المنيم خون کا تسلی بخش بدلہ جس کے بعد طالب خون چین کی نیند سوئے۔ الثائر: انتقام لینے والا۔

ثأر ۔ثأرًا ہ/ب: کا بدلہ لینا، انتقام لینا، کے خون کا بدلہ لینا۔ ۔ ہ/ب ... سے ذاتی انتقام لینا۔ اثأر و اثار: کا بدلہ اترنا، اپنا بدلہ لینا، انتقام لینا۔ ثأر جمع ثارات و آثار: انتقام، بدلہ، خون کا بدلہ، ترکی بترکی جواب، انتقامی کارروائی۔ أخذ ثاره یا اخذ بالثأر: بدلہ لینا، انتقام لینا، ذاتی انتقام لینا۔ مباراة الثأر: دوسرا میچ (کھلاڑیوں کا)۔

ثأط: ۱۔ ثئط ۔ثأطًا اللحم: گوشت کا خراب ہو جانا، بدبودار ہو جانا، سڑنا۔ الثأط جمع ثأط: بدبودار کیچڑ۔ اس سے یہ مثل ہے: ثأطة مدت بماء: یہ مثل اس وقت بیان کی جاتی ہے جب ایک خرابی کے ساتھ دوسری اسی جیسی خرابی نمودار ہو جائے۔

۲۔ ثئط الرجل: زکام ہو جانا صفت: مثؤوط۔ الثؤاة: زکام۔

۳۔ الثأطاء: بے وقوف (عورت)۔ کہا جاتا ہے: امراة ثأطاء: لونڈی کی صفت کے طور پر بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ماهو بابن ثأطاء: وہ لونڈی کا بیٹا نہیں۔

ثأل: ثؤلل و تثألل جسده: جسم کا مسّے والا ہونا۔ الثؤلول جمع ثآليل: (طب): مسہ گمڑی (ع ا): پستان کا سرا۔

ثؤلول و ثؤلولة جمع ثآليل: مسّا، گمڑی، سخت دانہ۔

ثأى: ۱۔ ثأى ۔ثأيًا و أثأ الشيء: کو پھاڑنا، چیرنا۔ ثئي ۔ثأى الشيء: چھدنا۔

۲۔ ثأ ۔ثأيا و أثأى ہ: کو کمزور کرنا، خراب کرنا، بگاڑنا۔ الثأى: فساد، خرابی کہا جاتا ہے: فلان يرأب الثأى: فلاں شخص خرابی کی اصلاح کرتا ہے۔

۳۔ أثأى في القوم: لوگوں میں قتل و زخمی کرنا، فساد کرنا۔ الثأى: زخم کے نشان، داغ۔

ثب: ثب ۔ثبابًا: جم کر بیٹھنا۔ ۔ الأمر: کام پورا ہونا۔

ثبت: ۱۔ ثبت ۔ثباتةً و ثبوتةً: مستقل مزاج ہونا، بہادر ہونا۔ الثبات: بہادر شہسوار جس کا حملہ خطا نہ جاتا ہو۔

۲۔ ثبت ۔ثباتًا و ثبوتًا في المكان: کسی جگہ ٹھہرنا، اقامت کرنا ۔۔ على الأمر: کسی کام پر مداومت کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا صفت: ثابت و ثبيت و ثبت۔ ثبت و أثبت ہ: کو ثابت کرنا، مستقل طور پر تعینات کرنا۔ کہا جاتا ہے: طعنه فأثبت فيه الرمح: اس نے اس کو نیزہ مار کر چھید کر دیا۔ ثابت (ہ): نہ بدلنے والا عدد جیسے ۳، ۴۔ الثوابت من النجوم (واحد ثابتة) (فلك): ستارے (جو سیارے نہ ہوں)۔ الثبات: ایسی بیماری جو بیمار کو حرکت کرنے نہ دے۔ الثبات: برقع کے بند یا ڈوریاں۔ کجاوہ باندھنے کے تسمے۔ المثبت (مفع) تسموں سے بندھا ہوا۔ (طب): صاحب فراش بیمار۔

۳۔ ثبت ۔ثباتًا و ثبوتًا الامر عنده: کے نزدیک معاملہ ثابت ہونا، موکد ہونا۔ ثبت و الحق: حق کو دلائل سے موکد کرنا۔ أثبت و ثابت الامر: کو کما حقہ جاننا۔ إستثبت و تثبت في الامر و الرأى: کسی کام یا رائے میں آہستگی سے کام لینا، مشورہ کرنا، خوب چھان بین کرنا۔ الثبت جمع اثبات: ثابت ہونا، حجت، دلیل۔ کہا جاتا ہے: لا احكم الا بثبت: میں بغیر دلیل و حجت کے فیصلہ نہیں دیتا۔ الأثبات: قوم کے معتبر لوگ کہا جاتا ہے: فلان ثبت من الاثبات: مجاز جس طرح کہتے ہیں: فلان حجة:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جب کوئی روایت میں ثقہ ہے۔ الاثبات: ایجاب، سلب اورنفی کی ضد۔

۴۔ أثْبَتَ اسمَه في الديوان: رجسٹر میں نام لکھنا، درج کرنا۔

۵۔ ثبّتَ الولدَ: عیسائی بچے کی دینی تلقین وتوثیق کی رسم ادا کرنا۔ التثبیت: مذہبی رسم جس میں ایک شخص مسیحی کلیسہ میں کامل رکن کی حیثیت سے داخل کیا جاتا ہے۔

ثَبَتَ ـُ ثَباتًا و ثُبُوتًا: جم کر کھڑا ہونا، جڑا یا جما ہوا ہونا، غیر تغیر پذیر ہونا، ساکن ہونا، غیر متحرک ہونا، غیر متزلزل ہونا، پکا ہونا، مضبوط ہونا، پائدار ہونا، مستقل مزاج ہونا، طاقتور، قوی اور توانا ہونا، سخت ہونا، زوردار یا پرزور ہونا، مستحکم ہونا، متوازن ہونا۔ ــــ ل: کے مقابلہ میں چلنا، باقی رہنا، اپنے موقف پر قائم رہنا، کی بابت پائدار رہنا، کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جمے رہنا، کا مقابلہ کرنا، کو طاقت سے روکنا، کی مقاومت کرنا، کے مقابلہ میں آنا، کی اطاعت نہ کرنا، کا حکم نہ ماننا۔ ــ: ثابت ہونا (حقیقت کا) مسلم ہونا۔ ــ ب: کسی جگہ رہنا، ٹھہرنا۔ ــــ علی: کو برقرار رکھنا، چالو رکھنا، قائم رکھنا، پر جما رہنا، سے وابستہ رہنا، کسی معاہدہ پر قائم رہنا، جمے رہنا، پر اصرار کرنا۔ ثبت فی وَجْهِهِ: کے خلاف اپنی بات منوانا، اپنی بات کی طرف توجہ مبذول کرنا۔ ثَبّتَ ہ: کو باندھنا، لگانا، جوڑنا، کو مضبوط کرنا، جمانا، مستحکم کرنا، کی تصدیق کرنا، کا ثبوت مہیا کرنا، کے لئے حقائق پیش کرنا، کی تائید کرنا، کو پائدار بنانا۔ ــ ہ: کو مستقل طور پر تعینات کرنا۔ ــ ہ: کو ثابت کرنا۔ ــ بان: دکھانا کہ، مظاہرہ کرنا کہ۔ ــ علی: (مدعا علیہ) کو مجرم ثابت کرنا، مجرم قرار دیا۔ ثبّتَ بصرہ بہ: پر اپنی نظریں گاڑنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کو گھورنا۔ ثبّتَ قدمیہ: پاؤں رکھنے کی جگہ حاصل کرنا، پاؤں جمانا۔ اثْبَتَ ہ: کو قائم کرنا، مستقل بنیادوں پر استوار کرنا، کو معین کرنا، کا تعین کرنا، کو دعوی سے کہنا، کا باضابطہ اعلان کرنا، کو وثوق سے، قانونی، معتبر یا مستند کے طور پر کہنا، کی تصدیق کرنا، کی تائید کرنا، کا ثبوت مہیا کرنے کے لئے حقائق پیش کرنا۔ ــــ ہ علی: کو پر ثابت کرنا۔ ــ ل ان: پر ثابت کرنا کہ۔ ــ ہ: کو دکھانا، کا مظاہرہ کرنا۔ ــ ہ: کے لئے مکمل شہادت مہیا کرنا، (گواہی) کی تصدیق کرنا، تصدیقی شہادت دینا۔ ــ ہ ل: میں کو تسلیم کرنا، بجا سمجھنا، ماننا، قبول کرنا۔ ــ ہ ل: کا حق ماننا۔ ــــ علی: (مدعی علیہ) کو مجرم ثابت کرنا، مجرم قرار دینا۔ ــــ ہ فی: کا میں اندراج کرنا۔ اثبتہ فی الورق: کوئی چیز ضبط تحریر میں لانا۔ أثْبَتَ الشخصَ: کی شناخت کرنا، نشاندہی کرنا، کو پہچاننا۔ أثْبَتَ شخصیتہ: اپنی شناخت کرانا، اپنی شخصیت یا شناخت ثابت کرنا۔ تَثَبّتَ فی / اھل: کی تصدیق کرنا، تصدیق کرنا کیا / آیا کی تحقیق کرنا، کا پتہ چلانا۔ تحقیق کرنا آیا، پتہ چلانا آیا۔ ــ فی: پر توجہ سے غور کرنا، میں احتیاط سے آگے بڑھنا۔ اِسْتَثْبَتَ: اپنے آپ کو ثابت قدم ظاہر کرنا۔ ــــ ہ: کی تصدیق چاہنا، کے متعلق پر یقین ہونے کی کوشش کرنا، کے بارے میں تصدیق چاہنا، کے متعلق یقین کرنا، کو درست، ثابت شدہ یا سچا پانا، کو تصدیق شدہ دیکھنا، کو مستند یا معتبر سمجھنا۔ ثَبْت: مضبوط، جما ہوا، قائم، ثابت قدم، بہادر، پکا، پختہ۔ ثَبَت: قابل اعتماد، قابل یقین، لائق اعتماد، بھروسے کا۔ ثَبَت جمع اثْبات: فہرست، اشاریہ، فرائض کی فہرست۔ ثَبات: پائداری، استقلال، ثابت قدمی، پختگی، استواری، استحکام، قیام، ایقان، یقین، یقینی امر، قابل اعتماد ہونا، حکمی ہونا، یقینی ہونا، مستقل مزاجی، عزم الجزم، اصرار، ضد، برداشت، بردباری، تحمل، استمرار، تسلسل، دوام، ہیشگی۔ ــ علی: کو برقرار رکھنا، کا قبضہ میں رہنا، کی حمایت سے وابستگی۔ ثُبوت: قیام، استحکام، استقلال، ثابت قدمی، ایک حال میں رہنا، دروام، ایک حالت کا ناقابل تغیر ہونا، یکساں، پختگی، استواری، استحکام، پائداری، دیرپائی، ایقان، یقین، یقینی امر، قابل اعتماد ہونا، یقینی ہونا۔ ثبوتُ الشھر: کسی قمری مہینہ کے شروع ہونے کی سرکاری تعیین۔ اثبتُ: زیادہ قابل اعتماد، زیادہ مستحکم، زیادہ ثابت قدم وغیرہ۔ تثبیت: استحکام، تقویت، پائداری، پائدار بنانا، مضبوط کرنا، تاکید، تصدیق، ثبوت، ثبوت اصلیت۔ سِرُّ التثبیت: مذہبی رسم جس میں ایک شخص کو کلیسا میں کامل رکن کی حیثیت سے داخل کیا جاتا ہے۔ اِثبات: استحکام، ادعا، بیان بالیقین، دعوی، تصدیق، تائید، توثیق، اثباتی اقرار، حلفیہ اقرار، تحریری اقرار، حلفیہ بیان، شہادت، ثبوت اثبات، دلالت، دلیل، مظاہرہ، رجسٹری، داخلہ، اندراج، درج کرنا، تحریری شہادت کی فراہمی، تحقیق۔ شاھدُ اِثبات: استغاثہ کا گواہ۔ عبء الاثبات: بار ثبوت۔ اِثباتی: تصدیقی، اقراری، اثباتی، معاون، تائیدی، قطعی، صریحی، ایجابی، مثبت۔ تثبُّت: تصدیق، معائنہ، جائزہ، تشخیص، تفتیش، تحقیق، جانچ پڑتال، امتحان محتاط اور چوکس طریقہ کار یا اسلوب کار، یا کارروائی و [illegible]

تدفین۔ ثابت: پکا، مضبوط، جڑا ہوا، قائم، ساکن، ٹھہرا ہوا، مقیم، غیر متحرک، بے حرکت، منجمد، مستقل مزاج، غیر متزلزل، مستحکم، جما ہوا، ثابت قدم، ناقابل تبدیلی، اٹل، ایک حال پر، مستقل، سدا ایک حالت پر رہنے والا، راسخ، دیرپا، مستقل، استمراری، دائمی، برداشت کرنیوالا، تصدیق شدہ، ثابت شدہ۔ ثابتُ الجاشِ: بے خوف، نڈر، سرگرم، پرجوش، مخلص، پکا پختہ، بھروسہ کا، ثابت قدم، نہ ڈرا ہوا ثابتُ العزمِ: مضبوطی سے عزم کئے ہوئے، ثابت قدم، مصمم۔ املاکٌ ثابتةٌ و اموالٌ ثابتةٌ: غیر منقولہ جائیداد۔ ثابتة جمع ثوابت: ستارہ۔ مثبوت: قائم، مضبوط، تصدیق شدہ، یقینی، قطعی، صریحی، ثابت شدہ۔

ثبج: ۱۔ ثَبَجَ ـُ ثَبْجًا و ثَبّجَ الكلامَ: ٹھیک کلام نہ کرنا، بے ترتیب بولنا۔ ــ الخطَّ: بے ترتیب لکھنا، تحریر میں غیر معروف طریقہ برتنا۔

۲۔ ثَبَجَ ـ ثَبْجًا و ثُبُوجًا: پاؤں کی انگلیوں پر بیٹھنا۔

۳۔ ثَبّجَ و تَثَبّجَ الراعی بالعصا: گڈریے کا لاٹھی کو پیٹھ پر رکھ کر اس کے پیچھے اپنے ہاتھ رکھنا۔ اِثْبَأَجَّ الرجلُ: موٹا اور ڈھیلا ہونا۔ ــ السقاء: مشک کا بھر جانا۔ الثَبَج جمع اَثْباج و ثُبُوج من کل شیء: ہر چیز کا درمیانی حصہ، بڑا حصہ (کہا جاتا ہے: یرکبون ثَبَج هذا البحر: وہ اس سمندر کے بڑے حصے پر سوار ہوتے ہیں) اونچا حصہ (کہا جاتا ہے: تَسَنّمَتُ الحُمرُ اثباجَ الآکام: گدھے ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے)۔ کندھے اور پیٹھ کا درمیانی حصہ۔ الأثْبج: چوڑی پیٹھ والا، کبڑی پیٹھ والا۔ المُثَبّجُ من الرجال: بے ڈول لمبے قد والا آدمی۔

ثبر: ۱۔ ثَبَرَ ـُ ثَبْرًا ہ: پر لعنت کرنا، کو دھتکارنا، ناکام کرنا۔ ــ عن کذا: سے منع کرنا، روکنا۔ ــ و ثَبّرَ فلانا بالشیء: کو پر روک دینا۔ المُثَبّر محروم۔

۲۔ ثَبَرَ ـُ ثُبُورًا: ہلاک ہونا۔ ــ ہ: کو ہلاک کرنا۔ ثَبّرَ اللّٰہُ فلانًا: اللہ تعالیٰ کا فلاں کو ہلاک کر دینا۔ الثُبُور: ہلاکت، مصیبت، ہلاک کرنا، غم۔ کہا جاتا ہے: دعا بالویل و الثبور: واَویلاہ و الثُبوراہ: کہنا (یہ ہلاک ہونے والا یا وہ شخص جسے سخت مصیبت آپڑی ہو کہتا ہے)۔

۳۔ ثَبِرَت ـَ ثَبَرًا القرحةُ: زخم کا کھل کر بہنا۔

۴۔ ثَابَرَ ثِبارًا و مُثابَرَةً علی الامر: کسی کام پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا۔ صفت: مُثابِر۔

۵۔ تَثَابَروا: ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ الثَبْرَة: نرم زمین، زمین یا پہاڑ میں گڑھا۔ المَثْبِر: مذبح، بوچڑ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

• خانہ، عورت کے بچہ جننے یا اونٹنی کے بچہ دینے کی جگہ۔
المُثبِّر: محدود۔

○ ثَبَرَ ـُ ثُبُوراً ہ: کو برباد کرنا، تباہ کرنا۔ ــــ: ہلاک ہونا۔ ثابَرَ علی: جوش واستقلال سے کسی کام پر اپنے خیالات اور طاقت کو مرکوز کرنا، پر ثابت قدم رہنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ ثُبُور: تباہی، بربادی۔ نادی (یادعا) بالویل و الثُبور: گریہ وزاری کرنا، پھوٹ پھوٹ کر اونچی آواز سے ماتم کرنا، سخت افسوس کرنا۔ مُثابرَہ: استقلال، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، (پر) جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، صبر، برداشت، حوصلہ، سرگرمی، تندہی، جاں فشانی، محنت، مشقت۔

ثبط: ثَبَطَ ـُ ثَبْطًا و ثَبَّطَ ہ عن الأمر: کو کسی امر سے باز رکھنا۔ ـــ ہ علی الامر: کو کسی کام پر موقوف رکھنا۔ أَثْبَطَ ہُ المرضُ: بیماری کا کسی کو چمٹ جانا اور نہ چھوڑنا۔ تَثَبَّطَ عن الأمر: کسی کام میں دیر لگانا یا اس سے رکنا۔ الثَبِط جمع أثْباط و ثِباط مونث ثَبِطَاء: کمزور، بے وقوف۔

○ ثَبَطَ ـُ ثَبْطًا ہ عن و ثَبَّطَ ہ عن: کو سے روکنا، منع کرنا، باز رکھنا، روکے رکھنا۔ ـــ ہ/ ھ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، میں رکاوٹ ہونا، کو آہستہ کرنا، میں تاخیر کرنا، کو ناکام کرنا، کو ناکام بنانا، بے اثر کرنا۔

ثبق: ثَبَقَ ـِ ثَبْقًا و ثَباقًا النهرُ: دریا کا پانی بڑھ جانا اور تیز بہنا۔ ـــ ت العینُ: آنکھ کا تیزی سے آنسو بہانا۔

ثبل: الثُبل و الثَبَل: برتن وغیرہ میں نیچے باقی رہنے والی چیز۔

ثبن: ثَبَنَ ـِ ثَبْنًا و ثِبانًا الثوبَ: کپڑے کی ایک طرف کو موڑ کر اس کو سینا۔ ـــ الشيءَ: پر پاجامہ کے نیفہ کو آگے سے لپیٹنا۔ ـــ و تَثَبَّنَ الشيءَ: کو جھولی میں رکھ کر لیجانا، پائجامہ کے نیفہ میں رکھ لینا۔ الثِبــــن: چادر کا موڑا ہوا کنارہ۔ الثُبْنَة جمع ثُبَن و الثبان جمع ثُبـــن: جھولی، دامن کی گودی جو کسی چیز کے لئے پھیلائی جائے۔ المَثْبَنَة جمع مَثابِن: وہ تھیلی جس میں عورت آئینہ وغیرہ رکھتی ہے۔

○ ثُبْنَة جمع ثُبَن: جھولی، دامن، پلو، آنچل، گود، آغوش۔ ثِبان بمعنی ثُبْنَة۔

ثبی: ا۔ ثَبَی ـِ ثَبْیًا الشيءَ: کو جمع کرنا۔ ثَبَّیَ الشيءَ: کو جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے: ثَبَّی اللّٰہُ لَہُ النِعَم: اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نعمتوں کے تودے لگا دیئے۔ الثُبَة جمع ثُبات و ثُبُوت: جماعت حوض کا درمیانی حصہ، سواروں کا گروہ۔ الأُثْبِيَّة جمع اَثــــابي: بڑی جماعت۔

۲۔ ثَبَّی الشيءَ: کی تعظیم کرنا۔ علی فلان: کی تعریف کرنا۔ المُثَبِّي: لوگوں کی بہت تعریف کرنے والا۔

۳۔ ثَبَّی الشيءَ: کی اصلاح کرنا، کو تمام کرنا۔ ـــ علی الأمر: کسی کام میں لگا تار لگا رہنا۔

ثج: ا۔ ثَجَّ ـُ ثُجُوجًا الماءُ: پانی کا بہنا۔ ثَجًّا الماءَ: پانی کو بہانا۔ اِنْثَجَّ الماءُ: پانی کا بہنا۔ الثَجّاجُ من الأمطار: بہت برسنے والی بارش۔ الثُجُوج من العیون: بہت پانی والا چشمہ۔ الثَجِیج: زبردست سیلاب۔ المِثَجّ: خوش بیان لکچرار، مقرر۔

۲۔ ثَجْثَجَ الماءَ: پانی کو بہانا۔ تَثَجْثَجَ الماءُ: پانی کا بہہ پڑنا، جاری ہو جانا۔

○ ثَجَّ ـُ ثُجُوجًا: افراط سے بہنا۔ ثَجّاج: افراط سے بہنے والا، دھار بن کر بہنے والا۔

ثجر: ثَجَرَ ـُ ثَجْراً التَمْرَ: کھجور کو بسر کی کھلی کے ساتھ ملانا۔ ثَجَّرَہ: کو وسیع کرنا، چوڑا کرنا۔ الثَجْر و الثَجِر و الأُثْجُر من الورق و نحوہ: موٹا اور چوڑا پتا وغیرہ۔ الثُجْرَة جمع ثُجَر: ہنسلی کے درمیانی گڑھے کا اردگرد۔ (کہا جاتا ہے: طعنوهم في الثُغَر و الثُجَر: انہوں نے ان کے ہنسلیوں کے درمیانی گڑھوں کے ارد گرد نیزے چبھوئے)۔ درمیان، وسط۔ کہا جاتا ہے: اقاموا في ثُجْرَة الوادي: انہوں نے وادی کے وسط میں قیام کیا۔ ثَجِیرُ البُسر: گدر کھجوروں کی تلچھٹ۔

ثجل: ثَجِلَ ـَ ثَجَلاً: بڑے پیٹ والا ہونا صفت: اَثْجَل۔ الثَجْلاء جمع ثُجْل من النساء: بڑی عورت، بھاری بھرکم عورت۔ ـــ من المزاد: کشادہ توشہ دان۔

ثجم: ثَجَمَ ـُ ثُجُمًا تِ السماءُ: آسمان کا جلد بارش برسانا، بارش کا جلدی برسنا۔ ـــ ہ عنہ: کو سے جلد پھیر دینا۔ أَثْجَمَتِ السماءُ: آسمان کا جلد بارش برسانا، بارش کا جلدی برسنا۔

ثجا: ثَجا ـُ ثُجُوًّا: خاموش رہنا۔ أَثْجَی ہ: کو خاموش کرنا۔

ثخن: ثَخُنَ ـُ ثِخَنًا و ثَخانَةً و ثُخُونَةً: موٹا ہونا، سخت ہونا صفت ثَخِین جمع ثُخَناء۔ أَثْخَنَ في الأمر: میں مبالغہ کرنا۔ ــــ في العدوّ: دشمن کے قتل میں زیادتی کرنا۔ ـ في الارض: خونریزی میں حد سے آگے بڑھنا۔ ـــ تْہُ الجراحُ: کو زخم کا کمزور و نڈھال کرنا۔ اِثَّخَنَ: کمزور و سست ہونا۔ اِسْتَثْخَنَ منہ المرضُ او النومُ: پر بیماری یا نیند کا غالب آنا۔

○ ثَخُنَ ـُ ثِخَنًا و ثَخانَةً و ثُخُونَةً: موٹا ہونا، سخت ہونا، ٹھوس ہونا، کسا ہوا ہونا۔ أَثْخَنَ ہ: کو کمزور کرنا، عاجز کر دینا، تھکا دینا۔ أَثْخَنَہُ ضربًا: کو سختی سے پیٹنا، کی خوب مرمت کرنا، پٹائی کرنا، کو سخت ضربیں لگانا۔ أَثْخَنَ في العدو: دشمن کا قتل عام کرنا۔ أَثْخَنَہُ بالجراح: کو زخمی کر کے کمزور کر دینا۔ ثِخَن و ثَخانَة و ثُخُونَة: کثافت، فربہی، ٹھوس پن، گنجانی، گاڑھا پن، گھنا پن، ضخامت، استقامت، متانت۔ ثَخِین جمع ثُخَناء: گاڑھا، کثیف، گنجان، گھنا، موٹا، بھرا ہوا، ٹھوس۔

ثدغ: ثَدَغَ ـَ ثَدْغًا راسَہُ: کے سر کو کچلنا، پھوڑنا۔ اِنْثَدَغَ: کچلا جانا، پھوڑا جانا۔

ثدق: ثَدَقَ ـُ ثَدْقًا المطرُ: بارش کا پڑنا۔ ـ السحابُ: بادل کا بارش برسانا صفت: ثادِق۔ اِنْثَدَقَ الناسُ علیہ: پر لوگوں کا حملہ کرنا۔

ثدم: ثَدَّمَ الابریقَ: لوٹے پر صافی ڈالنا۔ الثِدام: صافی۔ الثَدْم مونث ثَدْمَة: کلام و حجت میں عاجز، احمق۔

ثدن: ثَدِنَ ـَ ثَدَنًا اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا، بو دینا۔ و ثُدِّنَ الرجلُ: پر گوشت اور بھاری بدن والا ہونا، صفت: ثَدِن و مُثَدَّن۔ أَثْدَنَ الشيءَ: کو چھوٹا کرنا۔

ثدا: ثَدا ـُ ثُدُوًّا ہ: کو تر کرنا۔ ثَدِيَ ـَ ثَدًی: تر ہونا۔ ثَدّاہ تَثْدِيَةً: کو کھلانا۔ الثَدِي و الثَدَی جمع ثُدِيّ و ثِدِيّ و أَثْدٍ (ع ا): پستان (مذکر و مونث)۔ الثَدْیاء: بڑے پستان والی عورت۔

ثرّ: ثَرَّ ـُ ثَرًّا و ثُرُورًا و ثُرُورَةً و ثَرارَةً الشيءُ: کشادہ ہونا۔ ـــ تِ السحابةُ او العینُ: بادل یا آنکھ کا بہت پانی والا ہونا صفت: ثَرَّة و ثَرور (مونث)۔ ثَرّ جمع ثِرار (مذکر)۔ ـــ ثَرًّا تِ السحابةُ ماءَھا: بادل کا پانی برسانا۔ الثَرّارة من العیون: بہت پانی والا چشمہ۔ الثَرّ: بہت بولنے والا، باتونی۔ کہا جاتا ہے: مَطَرٌ ثَرٌّ: موسلا دھار بارش۔ فرسٌ ثَرٌّ: لمبے قدم رکھنے والا گھوڑا۔ شاة ثَرَّة: بہت دودھ دینے والی بکری۔ الثارَّة: بہت بولنے والی، باتونی عورت۔

۲۔ ثَرَّ ـُ ثَرًّا ہ: کو متفرق کرنا۔ ثَرَّر المکانَ: جگہ کو تر کرنا۔

۳۔ ثَرْثَرَ ثَرْثَرَةً الشيءَ: کو بکھیرنا، متفرق کرنا۔ ــــ الکلام: بکواس کرنا، فضول بک بک کرنا۔ صفت ثَرثار مونث: ثَرْثارَة۔ الثَرثارة و الثُرثُورة من عیون الماء: بہت پانی والا چشمہ۔ الثَرْثَرَة: بک

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بک، بکواس، ہرزہ سرائی، یادہ گوئی، طفلانہ گفتگو۔
○ ثَرٌّ: بہت پانی والا۔ ثَرَّۃٌ من الدمع: آنسوؤں سے تر آنکھ، دھندلی آنکھ۔
○ ثَرثَرَ ثَرثَرَۃً: بک بک کرنا، بکواس کرنا، ہرزہ سرائی کرنا، یاوہ گوئی کرنا، بچوں کی سی باتیں کرنا۔ ثَرثار: بکواس کرنے والا وغیرہ

ثرب: ۱۔ ثَرَبَ - ثَربًا و أثرَبَ ہ: کو ملامت کرنا، کے فعل کو برا بتانا۔ ثَرَّبَ ہ و علیہ: کو ملامت کرنا، کے فعل کو برا بتانا۔ المُثَرِّب: گڑبڑ کرنے والا، فسادی، شرپسند۔
۲۔ أثرَبَ الکبشُ: مینڈھے کی اوجھڑی اور انتڑیوں پر چربی کا زیادہ ہونا۔ صفت: أثرَب مونث: ثَرباء۔ الثَّرب جمع ثُرُوب و أثرُب و جمع الجمع أثارِب: اوجھڑی اور آنتوں کے اوپر کی چربی۔
○ ثَرَّبَ - تَثریبًا و ثَرَّبَ ہ علی: کو ملامت کرنا، قصوروار قرار دینا، کو الزام دینا، کی عیب جوئی کرنا، مذمت کرنا۔ تَثریب: عیب جوئی، الزام تراشی، ڈانٹ، اظہار ناراضگی، ملامت، الزام، زجر و توبیخ، سرزنش، جھاڑ چھپاڑ، ڈانٹ ڈپٹ، لعن طعن۔

ثرد: ۱۔ ثَرَدَ - ثَردًا و اثَّرَدَ و اثتَرَدَ: ثرید بنانا۔ — الخبزَ: روٹی کو توڑ کر شوربے میں بھگونا: ایسی روٹی جو شوربے میں توڑ کر بھگوئی گئی ہو: ثَرِید اور مَثرُود کہلاتی ہے۔ الثَّرِید و الثَّرِیدَۃ: ثَرائِد و ثُرُود (ط) شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی۔ الثَّرد: ہلکی بارش المَثرُودۃ و المُثَرَّدَۃ من الاراضی: وہ زمین جس پر ہلکی سی بارش ہوئی ہو۔
۲۔ ثَرَّدَ - الثوبَ: کپڑے کو رنگ میں بھگونا۔ ثُرِدَ و ثُرِّدَ من المعرکۃ: میدان کارزار سے زخمی حالت میں اٹھایا جانا۔
۳۔ الثَّرَد: ہونٹوں کی پھٹن۔ الأثرَد: پھٹے ہونٹوں والا۔
○ مِثرَد: پیالہ، کاسہ۔

ثرع: ۱۔ ثَرِعَ - ثَرَعًا الرجلُ: طفیلی بننا، بن بلائے دعوت میں جانا۔
۲۔ الثُّرعُلَۃ: مرغ کی گردن کے پر۔

ثرغ: الثُّرغُل (ح) لومڑی، روباہ۔ الثُّرغُول (ن): ایک قسم کی گھاس۔

ثرم: ثَرَمَ - ثَرمًا و أثرَمَ ہ: کے دانت کو جڑ سے توڑنا۔ ثَرِمَ - ثَرَمًا و انثَرَمَ: دانت کا جڑ سے ٹوٹنا۔ صفت: أثرَم مونث ثَرماء جمع ثُرم۔ الثُّرمَان (ن): ایک درخت جس کے پتے نہیں ہوتے اور اس میں بہت پانی ہوتا ہے۔ الأثرَمان: رات و دن، زمانہ، موت۔

○ ثَرَّمَ - تَثرِیمًا ہ: کو مار کر دانت نکال دینا۔ ثَرِمَ - ثَرَمًا: دو دانتوں کے درمیان خلا والا ہونا۔

ثرا: ثَرَا - ثَرَاءً القوم: لوگوں کا زیادہ ہونا۔ — اللّٰہُ القومَ: اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو زیادہ کرنا۔ — ہ: سے زیادہ مالدار ہونا۔ — و ثَرِیَ - ثَرًی الرجلُ: بہت مال والا ہونا۔ أثرَی إثرَاءً: بہت مالدار ہونا صفت: ثَرِی و مُثرٍ و أثرَی مونث: ثَروَاء۔ الثَّرَاء و الثَّروَۃ: مال یا لوگوں کی کثرت۔ الثَّرِیّ و الثَّرِی من المال: بہت مال۔ — من الناس: دولتمند، بہت مالدار۔ — من الریاح: بہت ہوا۔ الأثرَی مونث ثَروَاء: بہت مال دار۔ الثَّروَان مونث ثَروَی: بہت مالدار۔ الثُّرَیَّا: (فک) پروین، ستاروں کا جھمکا، برج ثور کے گردن کے سات ستارے، جھاڑ۔

ثری: ۱۔ ثَرِیَ - ثَرًی: دیکھو: ثَرَا۔
۲۔ ثَرِیَ - ثَرًی و أثرَی الترابُ: مٹی کا خشک ہونے کے بعد تر و نرم ہونا۔ صفت: ثَرِیّ و أثرَی مونث ثَرِیَّۃ و ثَرْیاء۔ ثَرَّی ہ: کو تر کرنا۔ — المکانَ: جگہ پر چھڑکاؤ کرنا۔ أثرَتِ الارضُ: زمین کا نم ناک ہونا۔ — المطرُ: بارش کا زمین کو نم ناک کرنا۔ الثَّرَی جمع أثرَاء: تری، نم ناکی۔ — و الثَّرَاء جمع أثرَاء: نم ناک مٹی۔ (کہا جاتا ہے: یبس الثَّرَی بینھم۔ ان کے درمیان مٹی خشک ہو گئی۔ مراد وہ دوست سے دشمن ہو گئے) خیر۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ قریب الثَّرَی: فلاں شخص خیر سے قریب ہے۔
○ ثَرِیَ - ثَروًا و ثَرًی: مالدار ہو جانا۔ أثرَی ب/من: کے ذریعے امیر و دولتمند ہونا یا ہو جانا۔ — ہ: کو امیر بنا دینا، مالا مال کرنا۔ ثَرَی: گیلی، تر، نم یا مرطوب مٹی۔ مٹی، زمین۔ این الثَّرَی من الثُّرَیَّا؟: کہاں زمین کہاں ثریا؟ (غیر متناسب قیمت کی چیزوں کے بالعموم ذکر کے لئے)۔ طَیَّبَ اللّٰہ ثراہ: کو اللہ تعالیٰ امن و سکون میں رکھے۔ ثَرِی جمع أثرِیَاء: دولتمند، امیر۔ ثَرِیُّ الحرب: جنگ سے نفع اندوز۔ ثَرِیَات: باغات، کھیت۔ ثَروَۃ و ثَرَاء: دولت، فراوانی، کثرت، وفور۔ اھل الثروۃ: امیر لوگ، دولت مند لوگ۔ ثَروَۃ قومیۃ: قومی دولت۔ ثَروَۃ مائیَۃ: پانی کی بہتات، کسی علاقہ میں پانی کی وافر فراہمی۔ ثُرَیَّا: سات سہیلیوں کا جھمکا، ثریا، پروین۔ ثریا و ثریۃ جمع ثُرَیَّات: شیشے کا جھاڑ، چہل چراغ، فانوس، جل چراغ۔ مُثرٍ: دولتمند، امیر۔

ثعب: ثَعَبَ - ثَعبًا علیھم الغارۃَ: پر لوٹ ڈالنا، حملہ کرنا [illegible]
إنثَعَبَ الماءُ: پانی کا نالی یا پرنالہ میں جاری ہونا۔ الثَّعب جمع ثُعبان: وادی میں پانی کے بہاؤ کی جگہ۔ الثَّعب و الثَّعَب و الاثعُوب من الماء او الدماء: بہتا پانی یا خون۔ المَثعَب: نالی یا پرنالہ۔ الثُّعبان جمع ثَعَابِین (ح): اژدہا، سانپ (مذکر و مونث)۔
○ ثُعبان الماء جمع ثعابین الماء: بام مچھلی۔ ثُعبانی: سانپ کی طرح کا، سانپ جیسا، سانپ کی شکل کا، سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا، بام مچھلی جیسا۔ مَثعَب جمع مَثَاعب: نالی۔

ثعط: ثَعِطَ - ثَعَطًا اللحمُ او الماءُ: گوشت یا پانی کا بدبودار ہونا۔

ثعل: ۱۔ ثَعِلَ - ثَعَلاً تِ اسنانُہ: کے دانتوں کا ایک دوسرے پر نکلنا۔ صفت: أثعَل مونث ثَعلاء جمع ثُعل الثَّعل: دانتوں کے پیچھے ایک زائد دانت، ایک دانت کا دوسرے دانت کے نیچے ہونا۔ الثَّعل و الثَّعَل: اونٹ، بکری یا گائے کے تھن میں باکھ کی زیادتی۔
۲۔ اثعَلَ الامرُ: کام کا سخت و دشوار ہونا، جس کو سرانجام دینے کا راستہ نہ سوجھے۔ — الضیوف: مہمانوں کا بہت یا زیادہ ہونا۔
۳۔ الثُّعل: لنیم (ح): مشک کے بدبودار ہونے پر اس میں پیدا ہونے والا کیڑا۔ ثُعَال و ثُعَالَۃ: لومڑی (غیر منصرف)۔ ارضٌ مَثعَلَۃ: بکثرت لومڑیوں کے پائے جانے کی زمین۔
○ ثعالۃ: لومڑی۔

ثعلب: ۱۔ ثَعلَبَ و تَثَعلَبَ: لومڑیوں کی طرح مکار ہونا۔ الثَّعلَب جمع ثَعَالِب و ثَعال۔ مادہ ثَعلَبَۃ نر ثُعلُبان۔ جب کہ ثعلب کا لفظ مذکر و مونث دونوں پر بولا جاتا ہے (ح) لومڑی، لومڑ۔ جو مکر و فریب میں ضرب المثل ہیں۔ لومڑی کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے بال ہر سال گر جاتے ہیں۔ لہٰذا داء الثعلب اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں بال جھڑ جائیں۔ کہا جاتا ہے: مکانٌ مُثَعلِبٌ و ارض مُثَعلِبَۃ: وہ جگہ یا زمین جہاں لومڑیاں بکثرت پائی جائیں۔
۲۔ الثَّعلَب: نیزے کا وہ سرا جو پھل میں لگایا جاتا ہے۔ عِنَبُ الثَّعلَب (ن): مکو۔ الثَّعلَبَۃ: دم کی ہڈی، سرین۔
○ ثَعلَبی: لومڑی کی طرح، چالباز، مکار، روباہ صفت: حیلہ ساز، لومڑی کے رنگ کا، بھورا۔ ثَعلَبَۃ: مادہ لومڑی، جلدی مرض، داد، کھجلی، کھاج۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ثغ: ثَغْثَغَ ثَغْثَغَةً كلامَهٗ: اپنے کلام کو مخلوط کرنا، گفتگو کو غلط ملط کرنا۔ صفت: ثَغْثَغٌ و ثَغْثَاغٌ کہا جاتا ہے: فلان يثغثغ في كلامه: فلاں شخص گڑبڑ گفتگو کرتا ہے، بے ترتیب گفتگو کرتا ہے۔

ثغب ۱۔ ثَغَبَ ـ ثَغْبًا الشاةَ: بکری کو ذبح کرنا۔ ــ ہ بالرمح: کو نیزہ بھونکنا۔

۲۔ ثَغِبَ ـ ثَغَبًا الجَمَدُ: برف کا پگھلنا۔ ــ الدمُ: خون کا بہنا۔ تَثَغَّبَتْ لِثَتُهٗ بالدم: کے مسوڑے سے خون بہنا۔ الثَّغْبُ جمع ثِغَاب و أَثْغَاب و الثَّغَبُ جمع ثِغْبَان و ثُغْبَان: پہاڑ کے سایہ میں تالاب جہاں دھوپ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کا پانی ٹھنڈا ہو۔

ثغر ۱۔ ثَغَرَ ـ ثَغْرًا الاناءَ: برتن میں سوراخ کرنا یا اس کو توڑنا۔ ــ الجدارَ: دیوار کو گرا دینا۔ الثَّغْرُ جمع ثُغُور: وہ جگہ جہاں سے دشمن کے حملہ کا خطرہ ہو، ساحل سمندر پر واقع شہر (مولدین کی اصطلاح میں)، پہاڑ یا وادی کی کشادگی، سرحد۔ کہا جاتا ہے: امسوا ثغورًا: وہ منتشر ہو گئے۔ الثُّغْرَةُ: رخنہ۔ المَثْغَرُ جمع مَثَاغِر: راستہ، دشمن کے ملک کی سرحد۔ الثُّغُورُ: سرحدوں پر خطروں کی جگہ۔

۲۔ ثَغَرَ ـ ثَغْرًا الثُّلْمَةَ: رخنہ بند کرنا۔ کہا جاتا ہے: ثَغَرَهُم و ثَغَر عليهم: اس نے درے میں داخل ہونے کے تمام راستے ان پر بند کر دیے۔

۳۔ ثُغِرَ ـ ثَغْرًا سِنُّهٗ: کا دانت نکالنا۔ ــ الرجلَ: کے دانت توڑنا۔ ثُغِرَ و أُثْغِرَ: کا منہ کچلا جانا۔ ــ الصبیُّ: بچے کے دانتوں کا گرنا، بچے کے دانت اگنا۔ اِثَّغَرَ و اِتَّغَرَ الصبیُّ: بچے کے دانت گرنا یا اگنا۔ الثَّغَرُ جمع ثُغُور: اگلے دانت، منہ۔

۴۔ الثُّغْرَةُ جمع ثُغَر: آسان راستہ (اسی سے مجازاً ہے: هو يخترق ثُغَر المجد: وہ بزرگی کے راستوں پر چلتا ہے۔)، ہنسلی کا درمیانی گڑھا۔

○ ثَغْر جمع ثُغُور: سامنے کا دانت، منہ، بندرگاہ، جہازوں کی قیام گاہ، چھوٹی کھاڑی، زمین سے گھرا ہوا چھوٹا سمندری حصہ، خلیج، کھاڑی، بندرگاہ والا شہر۔ ثُغْرَة جمع ثُغَر: شگاف، رخنہ، درز، سوراخ، دراڑ، روزن، راستہ، منہ، خندق، کھائی، پہاڑ کے درمیان تنگ راستہ، ٹھوس جسم میں خالی جگہ، خلا، غار، گڑھا، درہ، وادی۔

ثغم ۱۔ ثَاغَمَ ہٗ: کا بوسہ لینا۔

۲۔ أَثْغَمَ الرجلَ: کو غضبناک کرنا، مبتلائے بدہضمی کرنا۔

۳۔ أَثْغَمَ الوادی: وادی کا درخت ثغام اگانا۔ ــ الرأسُ: سر کا سفید ہونا۔ الثَّغَام: واحد ثَغَامَة (ن): پہاڑوں میں اگنے والے درخت جن کے پھول سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔

۴۔ الثَّغِمُ: کاٹنے والا کتا۔

○ ثَغَام: سفید، سفیدی۔ ثَاغِم: سفید۔

○ ثَغَا ـ ثُغَاءً: بھیڑ کا بھیں بھیں کرنا، میں میں کرنا۔ ثُغَاء: بھیں بھیں، میں میں۔ ثَاغٍ: بھیں بھیں کرنے والا، میں میں کرنے والا۔ مالهٗ ثاغية ولا راغية: اس کے پاس بالکل کچھ نہیں، وہ تمام وسائل سے محروم ہے۔ لفظی مفہوم: اس کے پاس نہ تو میں میں کرنے والی (بھیڑ) ہے اور نہ ہی بلبلانے والی (اونٹنی)۔

ثغا: ثَغَا ـ ثُغَاءً تِ الشاةُ: بکری کا ممیانا۔ أَثْغَى إثْغَاءً الشاةَ: بکری کو ممیانے پر اکسانا۔ کہا جاتا ہے: اتيته فما أثغى ولا أرغى: میں اس کے پاس آیا تو اس نے تو مجھے بکری دی نہ اونٹنی۔ الثَّاغِی (فا): کہا جاتا ہے: ما بالدار ثاغٍ ولا راغٍ: گھر میں کوئی نہیں۔ ماله ثاغية ولا راغية: اس کے پاس نہ بکری ہے نہ اونٹنی۔ الثَّغْيَة: بھوک، قبیلہ کا خالی ہو جانا۔ کہا جاتا ہے: اصابَ الحیَّ ثَغْيَةٌ: قبیلہ کو بھوک کی آفت پہنچی۔

ثفا: ثَفَا ـ ثَفْأً القِدْرَ: ہانڈی کے جوش کو ٹھنڈا کرنا۔

ثفد: ثَفَّدَ الدرعَ: زرہ کو لباس کے نیچے پہننا۔ الثِّفَافِيد: کپڑوں کے استر، اوپر نیچے سفید بادل۔ المَثَافِيد واحد مثفد: کپڑوں کے استر۔

ثفر: أَثْفَرَ و ثَفَّرَ الحمارَ: گدھے کو پیچھے سے چلانا، ہانکنا، کی دمچی بنانا یا اس سے باندھنا۔ اِسْتَثْفَرَ الكلبُ بذنبه: کتے کا دم دبانا۔ ــ المصارعُ بثوبه: پہلوان کا لنگوٹ باندھنا۔ الثَّفْرُ و الثَّفَرُ جمع أَثْفَار: زین کے پچھلے حصہ کا تسمہ۔

○ ثَفَر جمع أَثْفَار: (زین کی) دمچی، لید خور، گھوڑے کے چارجامے کی دمچی۔

ثفل: ۱۔ ثَفَلَ ـ ثَفْلًا و ثَفَّلَ الشیءَ: چیز کو یکبارگی بکھیر دینا۔

۲۔ ثَفَلَ ـ ثَفْلًا و ثَفَّلَ الرحى: چکی کے نیچے چمڑہ رکھنا۔ الثِّفَال: چکی کے نیچے بچھایا جانے والا چمڑہ۔ ــ و الثُّفَال: چکی کا نچلا پاٹ۔

۳۔ ثَافَلَهٗ: کا ہم نشین ہونا۔ تثفل استهٗ: بیٹھنا۔

۴۔ أَثْفَلَ الخمرُ: شراب کا نتھرنا۔ ــ الشرابُ: شراب کا تلچھٹ والا ہونا۔ الثُّفْلُ و الثَّافِلُ: تلچھٹ۔

۵۔ تَثَفَّلَ: مجد و بزرگی میں کوتاہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَثَفَّلَهٗ عِ[illegible] کوتاہی کرنے والا بنا دیا۔

۶۔ الثَّفَال: آہستہ رفتار اونٹ وغیرہ۔

○ ثُفْل: تلچھٹ، دُرد، گاد، بچا کھچا، بقیہ۔

ثفن: ۱۔ ثَفَنَ ـ ثَفْنًا ہ: کو دفع کرنا، مارنا۔ ــ تِ الناقةُ: اونٹنی کا گھٹنے سے مارنا۔ الثَّفِنَة جمع ثَفِنَات من البعير: اونٹ کے بدن کا وہ حصہ جو بیٹھتے وقت زمین پر لگے اور وہ سخت ہو گیا ہو جیسے: گھٹنے (کہا جاتا ہے: خوى البعير على ثفناته: اونٹ بیٹھ گیا)۔ ــ من الخيل: گھوڑے کے زانو کا باطنی حصہ۔ ــ من الانسان: انسان کے زانو۔

۲۔ ثَفِنَ ـ ثَفْنًا الشیءَ: کو کرتے رہنا۔ ثَافَنَ ہ: کے ساتھ ہم نشینی کرنا، کے ساتھ چمٹے رہنا، یہاں تک کہ اس کی نیت یا راز معلوم کر لے۔ ــ ہ على كذا: کی میں مدد کرنا۔ الثَّفِنَة: لوگوں کی جماعت۔

۳۔ ثَفِنَ ـ ثَفَنَات يدُهٗ: کا ہاتھ کام کرنے سے سخت ہو جانا۔ أَثْفَنَ العملُ يدَهٗ: کام کا کسی کے ہاتھ کو سخت کر دینا۔

○ ثَافَنَ ہ: کا ہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کے ساتھ اکثر جانا۔ ــ ہ: کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا، کو کرنا، کی مزاولت کرنا۔ ثَفِنَة جمع ثَفِنَات و ثِفَن: گٹی، ابھار، جلد کی سختی۔

ثفا: ثَفَا ـ ثُفُوًّا ہ: کے پیچھے جانا، کا تابع ہونا۔ ثَفَّى و أَثْفَى القِدرَ: ہانڈی کو چولہے کے پائے پر رکھنا۔ أَثْفَى الرجلُ: مرد کا تین عورتوں سے شادی کرنا۔ المُثَفَّى: وہ شخص جو تین یا تین سے زائد بیویوں کو دفن کر چکا ہو۔ المُثَفَّاة: وہ عورت جس کے تین یا تین سے زائد شوہر مر چکے ہوں۔

ثقب: ۱۔ ثَقَبَ ـ ثَقْبًا الشیءَ: میں سوراخ کرنا، چھید کرنا۔ انثقب الشیءُ: چیز میں سوراخ ہو جانا۔ ثَقَّبَ الشیءَ: چیز میں سوراخ کرنا۔ تَثَقَّبَ الشیءُ: چیز میں سوراخ ہونا۔ ــ ہ: میں سوراخ کرنا۔ الثَّقْب جمع أَثْقُب و ثُقُوب: سوراخ، چھید۔ ــ جمع ثُقُوب (مو): باجے کے سوراخ۔ الثُّقْبَة جمع ثُقَب و ثُقَب: چھوٹا سوراخ۔ المِثْقَب: برما۔ ــ و المَثْقَب: بڑا سخت اور دشوار راستہ۔ المُثَقَّب: سوراخ کیا ہوا۔

۲۔ ثَقَبَ ـ ثُقُوبًا تِ النارُ: آگ کا روشن ہونا۔ ــ تِ الرائحةُ: خوشبو پھیلنا۔ ــ النجمُ: ستارہ کا چمکنا۔ ــ الطائرُ: پرندے کا اونچا اڑنا۔ ثَقُبَ ـ ثَقَابَةً: سرخی میں آگ کے مشابہ ہونا۔ صفت: ثَقِيب مونث ثقيبة۔ ثَقَّبَ النارَ: آگ جلانا۔ ــ ہ الشيبُ و ــ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فیہ الشیبُ: میں بڑھاپا ظاہر ہونا۔ اَثْقَبَ النارَ: آگ جلانا۔ الثِقاب و الثُقُوب: آگ سلگانے کی چھوٹی چھوٹی تیلیاں، عوام ان کو شخط، نفط یا کبریت کہتے ہیں۔

۳- ثَقَبَ مُثقِّبات الناقة: اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔

۴- ثَقَبَ ثَقْبًا رأیُه: کی رائے کا نافذ ہونا۔ الثاقِب (فا) رأیٌ ثاقِبٌ: بات کی تہہ تک پہنچنے والی رائے۔ عقلٌ ثاقِبٌ: عقل کامل۔ حسبٌ ثاقِبٌ: مشہور و معروف حسب۔ کہا جاتا ہے: نحن اَثْقَبُ الناسِ انسابًا: لوگوں میں ہمارا نسب سب سے زیادہ واضح ہے۔ المِثقَب: نافذ رائے والا، بات کی تہہ تک پہنچنے والی رائے والا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ مِثقَبٌ: باخبر تیز فہم عمدہ رائے رکھنے والا مرد۔ هو طلّاعُ المثاقب: وہ بڑا ابھار اور من چلا ہے۔

○ ثَقَبَ ثَقْبًا ہ: میں برمے سے سوراخ کرنا، کو پنکچر کرنا، چیرنا، میں چھید ڈالنا، کو چھیدنا۔ ثَقَّبَ ہ: میں برمے سے سوراخ کرنا، کو پنکچر کرنا، کو چیرنا، چھیدنا، میں چھید ڈالنا۔ ثَقَّبَ و اَثْقَبَ ہ: کو روشن کرنا، جلانا۔ تَثَقَّبَ و اِنْثَقَبَ: چرنا، پنکچر ہونا، چھدنا۔ ثَقْب: چرنا، بورنگ کرنا، پنکچر کرنا، چھیدنا (ثُقْب جمع ثقوب و اثقاب) سوراخ پنکچر، برمے کا سوراخ، ڈرلنگ کا سوراخ۔ ثُقْبَة جمع ثُقَب: سوراخ۔ ثِقاب و عُودُ الثقاب: ماچس کی تیلی، ماچس۔ ثُقُوب: (دماغ، ذہن کی) تیزی، تیز فہمی، ذہانت، ذکاوت، فراست۔ مِثْقَب جمع مَثاقِب: سوراخ کرنے والا، ...نے والا، برما، سوراخ کرنے کا اوزار، ڈرل۔ اِثْقاب: جلانا، روشن کرنا۔ ثاقِب: تیز، زود فہم، علامہ فہم، تہہ تک پہنچنے والا (ذہن، آنکھیں)۔ ثاقِبُ النظرِ: تیز نظر۔ ثاقِبُ الفکر: تیز فہمی، فراست، زیرکی، ذکا، دقیقہ رسی، ذہانت، کھاگ، ذہین، ہوشیار، صاحب الرای، تیز فہم، دانا، ہوشمند، سمجھ دار۔

ثقف: ۱- ثَقِفَ و ثَقُفَ ثَقْفًا و ثَقَفًا و ثَقافةً: ذہین ہونا، ہوشیار ہونا، دانا ہونا۔ صفت: ثَقْفٌ و ثَقُفٌ و ثَقِفٌ و ثَقِيفٌ۔ ثَقِفَ ثَقْفًا و ثَقافةً و ثُقُوفةً الكلامَ: بات کو جلد سمجھ لینا۔ ___ ثَقْفًا ہ: کو جا پکڑنا، میں کامیاب ہونا، فتح مند ہونا۔ ثَقَفَ ثَقْفًا ہ: پر مہارت میں بڑھنا۔ ___ ہ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ ثاقَفَہٗ: پر مہارت میں غالب ہونا۔ (کہا جاتا ہے: ثاقفهٗ فثقفهٗ: اس نے اس پر غلبہ کی کوشش کی پس اس پر غالب ہو گیا)۔ ہتھیاروں سے باہم کھیلنا، سے جھگڑا کرنا، مخاصمت کرنا۔ تَثاقَفا: دانائی میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا، باہم جھگڑنا۔ الثِقاف من النساء: بہت ذہین عورت۔ الثِقاف: جھگڑا، مخاصمت۔ الثَقِیف: بہت ماہر، بہت ہوشیار، زیرک و چالاک۔

۲- ثَقَّفَ الرمحَ: نیزہ کو سیدھا کرنا۔ ___ الولدَ: لڑکے کو مہذب بنانا، تعلیم دینا، تربیت دینا۔ تَثَقَّفَ: مہذب بن جانا، تعلیم حاصل کرنا، تربیت پانا۔ مُثَقَّف مونث مُثَقَّفة: مہذب، تعلیم یافتہ۔ الثِقاف: نیزوں کو سیدھا کرنے کا اوزار۔ الثقافة: علوم، فنون اور آداب میں دسترس۔ المُثَقَّف (شعراء کی رائے میں) نیزہ: تعلیم یافتہ۔

۳- الثَقِیف: بہت کھٹا۔ خلٌّ ثَقِیفٌ: بہت کھٹا سرکہ۔

○ ثَقِفَ ثَقْفًا ہ: کو پانا، ملنا۔ ثَقِفَ و ثَقُفَ: ہوشیار و چالاک ہونا، طباع ہونا، حاضر جواب ہونا، ماہر ہونا، کاریگر ہونا۔ ثَقَّفَ ہ: کو سیدھا کرنا، کی تصحیح کرنا، کو ٹھیک کرنا۔ ___ ہ: کو تعلیم دینا، کی تربیت کرنا، سکھانا، پڑھانا، کو گرفتار کرنا۔ ___ ہ: کو ضبط کرنا، گرفت میں لینا۔ ثاقَفَ ہ: کے ساتھ شمشیر زنی کی مشق کرنا، پٹے کی مشق کرنا۔ تَثَقَّفَ: تربیت یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا۔ ثَقافة: تہذیب، تمدن، ثقافت، ذہنی تربیت، شائستگی، تعلیم، جمع ثَقافات: کلچر، تہذیب، تمدن۔ ثَقافِی: تعلیمی، عقلی، ذہنی، تہذیبی، تمدنی، ثقافتی۔ مُلْحَق ثَقافی: ثقافتی اتاشی cultural attache۔ تَثْقِیف: تربیت، تعلیم، ذہنی تربیت، معارف۔ مُثاقَفة: شمشیر زنی یا پٹے کی مشق، شمشیر زنی و پٹے بازی کا فن، شمشیر بازی، تیغ زنی۔ تَثَقُّف: مہذب ہونا، تہذیب یافتگی، شائستگی، تہذیب، تمدن، تعلیم۔ مُثَقَّف: تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، مہذب، تہذیب یافتہ، شائستہ۔

ثقل: ۱- ثَقُلَ ثِقْلًا و ثَقالةً: بھاری ہونا، بوجھل ہونا۔ صفت: ثقیل و ثُقال و ثِقال جمع ثُقَلاء و ثِقال و ثُقُل۔ ___ تِ المرأة: عورت کا حمل ظاہر ہونا۔ ___ القولُ: کسی بات کا سننا ناگوار ہونا۔ ___ ثِقَلًا المریضُ: مریض کی بیماری کا سخت ہو جانا۔ ثَقَلَ ثَقْلًا ہ: کو وزن کرنے کیلئے ہاتھ سے اٹھانا۔ ثَقَّلَ ہ: کو بوجھل کرنا، بھاری کرنا، وزنی کرنا۔ ___ علیه: پر بھاری بوجھ ڈالنا۔ ثاقَلَ: ثقیل کھانا، کھانا یا کھلانا۔ اَثْقَلَ ہ: پر بھاری بوجھ لادنا۔ ___ تِ المرأةُ: کے حمل کا بھاری ہونا اور ولادت کا وقت قریب آنا۔ صفت: مُثْقِل و مُثْقِلة۔ ___ ہ المرضُ: ... ہونا۔ تَثاقَلَ: بتکلف ثقل ظاہر کرنا۔ ___ عنه: دیر لگانا۔ ___ القومُ: مدد طلب کرنے کے باوجود قوم کا مدد کے لئے نہ اٹھنا۔ اِسْتَثْقَلَ الشیءُ: چیز کا بوجھل ہونا۔ ___ الشیءَ: چیز کو بوجھل پانا۔ ___ بفلان: کا بوجھ محسوس کرنا۔ الثاقِل جمع ثَواقِل: بھاری، بوجھل، وزنی، سخت۔ کہا جاتا ہے: مرضٌ ثاقل: سخت بیماری۔ اصبح ثاقِلًا: اس کو بیماری نے بوجھل کر دیا۔ الثَقَل جمع اَثْقال: مسافر کا سامان اور اس کے نوکر چاکر۔ کہا جاتا ہے: للمسافر ثَقَلٌ کثیرٌ: مسافر کا سامان اور نوکر چاکر بہت ہیں۔ الثِقْل جمع اَثْقال: بوجھ، وزن۔ کہا جاتا ہے: اَعْطِهِ ثِقْلَهٗ: اس کو اس کے برابر دو۔ الثِقَل: گراں باری۔ الثَقْلة و الثِقْلة و الثَقَلة و الثَقِلة و الثُقْلة: کل ساز و سامان۔ کہا جاتا ہے: ارتحلوا بثقلتهم: وہ اپنے کل ساز و سامان کو لے کر چل دیئے۔ الثَقْلة: پیٹ میں خوراک کی گرانی، اونگھ۔ کہا جاتا ہے: وجدتُ ثَقْلَةً فی جسدی: میں نے اپنے بدن میں گرانی و سستی محسوس کی۔ المِثْقال جمع مَثاقِیل: تولنے کے اوزان۔ مِثقالُ الشیءِ: چیز کا وزن یا ترازو۔

۲- ثَقَلَ ثِقْلًا و ثَقالةً السمعُ: کچھ بہرا ہونا۔

۳- ثَقَّلَ الحرفَ: حرف پر تشدید دینا۔

۴- اِثّاقَلَ الی الدنیا: دنیا کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔

۵- الثاقِل: دینارٌ ثاقِلٌ: پورا دینار۔ الثَقَل جمع اَثْقال: ہر نفیس و قیمتی چیز۔ المِثقال: عرف میں مثقال ڈیڑھ درہم کے وزن کا ہوتا ہے، کبھی اس سے کم یا زیادہ وزن کا بھی ہوتا ہے۔ الأَثْقال: زمین کے خزانے و دفینے، مردے۔ اسی سے قرآن مجید میں ہے: اخرجت الارضُ اثقالها: زمین (زلزلہ کے وقت) اپنے بوجھ (دفینے، خزانے وغیرہ) باہر نکال دیتی ہے۔ الثَقَلان: انسان اور جن۔

○ ثَقُلَ ثِقْلًا و ثَقالةً: بھاری ہونا، وزنی ہونا۔ ___ ب: کو لادنا، پر بوجھ ڈالنا، کو وزنی کرنا۔ ___ علی: کے لئے برداشت کرنا، مشکل ہونا، پر بھاری ہونا، کو بہت پریشان کرنا، کے لئے کڑا، سخت یا دوبھر یا اجیرن ہونا، کے لئے بوجھل، تکلیف دہ، بھاری بھرکم ہونا، ظالمانہ، سخت یا مار ڈالنے والا ہونا۔ ___: دوسروں کے احساسات کو فوری طور پر محسوس نہ کرنا، مٹھا یا سست ہونا، احمق ہونا، کند ذہن ہونا۔ ___ عن: کے لئے از حد مٹھا یا سست ہونا، کوئی کام کرنے میں سست ہونا، افسردہ، اداس، یا بجھا بجھا سا ہونا، بے ہمت ہونا، کی زحمت نہ اٹھانا۔ ثَقَلَ ہ: کو بوجھل کرنا، کا وزن کرنا، وزن معلوم کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ـ علی ہ: پر کا بوجھ ڈالنا، کو سے زیر بار کرنا۔ ـ علی: پر بہت زیادہ بوجھ لاد دینا، کو حد سے زیادہ زیر بار کرنا، کی طاقت سے زیادہ اس پر ٹیکس لگانا، سے بہت زیادہ مطالبہ کرنا۔ ـــ علی ب: کو سے پریشان کرنا، کو سے تکلیف دینا، کا سے ناک میں دم کرنا۔ ـ علی: کو دق کرنا، تنگ کر دینا، ستانا، چھیڑنا، تکلیف پہنچانا۔ ثَقَّل کاهِلَهُ و أثقَلَ کاهِلَهُ: کو زیر بار کرنا، پر بوجھ ڈالنا۔ ثَقَّل کاهِلَ المیزان: بجٹ پر بوجھ ڈالنا۔ اثقَل ہ / ہ: پر بوجھ ڈالنا، پر ظلم کرنا، جبر کرنا، کو دبانا، کو پریشانی میں مبتلا کرنا، پر دباؤ ڈالنا، کو تکلیف دینا، مغموم کرنا، تشویش میں ڈالنا، پر بھاری ہونا، کے لئے برداشت کرنا مشکل ہونا۔ اثقَل کاهِلَه: دیکھو ثقل کاهِلَهُ۔ تَثاقَل: بھاری ہونا، بھاری ہو جانا، ـــ علی: کے لئے بوجھل ہونا، بھاری ہونا، تکلیف دہ ہونا، اجیرن ہونا، کو پریشان کرنا، ایذا دینا، پر ظلم کرنا۔ ـــ: سست ہونا، مٹھا ہونا، احمق ہونا، سادہ لوح ہونا، خراب طبیعت میں ہونا، خفا، بیزار، بدمزاج یا زود رنج ہونا، ترش رو، چڑچڑا یا تند خو ہونا۔ ـ عن: کو تکلیف دہ پا کر اس سے روگرداں ہونا، کے بارے میں یا سے سروکار نہ رکھنا، کے لئے یا کے کرنے میں بہت کاہل ہونا، سست اور مٹھا ہونا۔ اِستَثقَل ہ: کو بھاری، سخت، بوجھل، پریشان کن پانا۔ ـــ ہ / علی: کو غصہ دلانے والا، برہم کن پانا۔ اِستَثقَل ظِلَّهُ: کو ناپسند کرنا، کو ناقابل برداشت پانا۔ ثِقل جمع اَثقال: بوجھ یا وزن، کشش ثقل، کشش زمین، گرانی، بھاری پن۔ رَفع الأثقال: وزن برداری، ویٹ لفٹنگ weight lifting۔ الثِقل النوعی: ثقل نوعی، کثافت نوعی (specific gravity)۔ ثَقَلَه: تکلیف، پریشانی، مصیبت، بے چینی، بے کلی، الجھن، بے آرامی۔ ثَقالَه: گرانی، بھاری پن، آرام طلبی، سستی، کاہلی، حماقت، کند ذہنی، بے حسی، سادہ لوحی۔ ثَقیل جمع ثُقَلاء و ثِقال: بھاری، وزنی، بوجھل، گراں، اہم، نہایت اہم، ضروری، مہتم بالشان، سنجیدہ، متحمل، بردبار، حلیم، بھاری بھرکم، مخدوش، اجیرن، تکلیف دہ، دشوار، سخت جابرانہ، ظالمانہ، ناخوشگوار، ناپسندیدہ، ناگوار، ناموافق، پریشان کن، بدذائقہ، بدمزہ، ناپسند (شخص)۔ ثَقِیل الدم: ناقابل تحمل، ناقابل برداشت، ناگوار، شدید، سخت ناپسندیدہ، ناپسند (شخص)۔ ثَقِیل الروح: احمق، کند ذہن (شخص)، کان کھاؤ، مغز چاٹ، اجیرن، وبال جان۔ ثَقِیلُ الظِّل: ناقابل برداشت، ناپسندیدہ (شخص)۔ ثقیل الفهم: آہستہ آہستہ سمجھنے والا، غبی، کند ذہن۔ ثقیل السمع: اونچا سننے والا۔ صناعة ثقیلة: بھاری صنعت heavy industry۔ ماءٌ ثقیل: بھاری پانی heavy water۔ اثقَل: زیادہ بھاری، زیادہ ظالمانہ۔ مِثقال جمع مَثاقِیل: وزن۔ مصر کا ایک باٹ جو ۲۴ قیراط یا ۴٫۶۸ گرام کے برابر ہوتا ہے۔ مثقال ذرّہ: ذرہ برابر، ذرہ بھر، تھوڑی مقدار۔ مِثقال من: تھوڑا سا، ذرا سا۔ تَثاقُل: آرام طلبی، سستی کاہلی، حماقت، کند ذہنی، بے حسی۔ مُتَثاقِل: سست کاہل، مٹھا، ڈھیلا، سادہ لوح، کودن، غبی، کند ذہن، خفا، آزردہ، بیزار، ترش رو، چڑچڑا، تند خو، بدمزاج۔ مُثقَل و مُثَقَّل: بوجھ ڈالا ہوا، زیر بار، حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہوا، زیادہ لادا ہوا، بھاری بوجھل۔ ـــ ب: سے بوجھل، سے دبا ہوا۔

ثکل: ثَکِلَ ـ ثُکلاً و ثَکَلاً و ثُکلاً ابنه: اپنے بیٹے کو گم کرنا، کھونا۔ صفت: ثاکِل و ثَکلان۔ مونث: ثاکل و ثاکِلَة و ثَکلَی جمع ثَواکِل و ثَکالَی۔ أثکَلَ الأمَّ و لَدَها و اثکَل الولدَ أمَّهُ: بچہ سے ماں کو گم کرا دینا، ماں کے سامنے بچے کا مر جانا۔ ـ ت المرأة: عورت کا اپنے بچے کو کھو دینا۔ الثَکُول و المِثکال جمع مَثاکِیل: بچہ کو بہت گم کرنے والی عورت۔ کہا جاتا ہے: نساءُ الغزاة مَثاکیل: غازیوں کی عورتیں بچہ کو گم کرنے والی ہوتی ہیں۔ المَثکَلَة: بچے کے گم ہونے کا سبب۔ کہا جاتا ہے: رُمحه للوالدات مَثکَلة: اس کا نیزہ ماؤں کے لئے بچوں کے گم کرنے کا سبب ہے۔

○ ثَکِلَ ـ ثَکَلاً ہ: (بچہ) گنوانا، کھونا، کے عزیز کا مر جانا۔ أثکَلَ الام ولدَها: ماں کو اس کے بیٹے سے محروم کر دینا۔ ثَکَل: اس شخص کی حالت جس نے دوست یا رشتہ دار کھو دیا ہو، عزیز کی موت پر غم۔ ثَکلان: جس کا بچہ مر گیا ہو۔ ثَکلَی: عورت جس کا بچہ مر گیا ہو، گم ہو گیا ہو۔ ثاکِلة جمع ثَواکِل: ماں جس کا بچہ مر گیا ہو، گم ہو گیا ہو۔

ثکم: ثَکَمَ ـ ثَکمًا بالمکان: کسی جگہ پر اقامت کرنا۔ ـــ الامر او الطریقَ: کسی کام کو کرتا رہنا، راستہ پر چلتا رہنا۔ ـ الآثارَ: نشانات کا کھوج لگانا، ـ لهَ الأمرَ: کے لئے کام کو واضح کرنا، کو کام اچھی طرح سمجھانا۔ ثَکِمَ ـ ثَکَمًا بالمکان: کسی جگہ پر اقامت کرنا۔

ثکن: الثُکنَة جمع ثُکَن (ا ع): فوجوں کا مرکز، کبوتروں وغیرہ کا غول (کہا جاتا ہے: حمام ثُکَن: کبوتر) لوگوں کی جماعت، چوپایوں کا گلہ یا ریوڑ، گردن بند، جھنڈا۔

○ ثُکنَة جمع ثُکَن و ثُکنات: بارک، بارکین، فوجیوں کی کوٹھریوں کی قطار barracks۔

ثلّ: ١ـ ثَلّ ـ ثَلاً البئرَ: کنویں کی مٹی نکالنا۔ ـــ الوعاء: برتن سے سب کچھ نکال لینا۔ الثلة جمع ثِلَل و ثِلال: کنویں سے نکالی ہوئی مٹی۔

٢ـ ثَلّ ـ ثلا و ثلا الترابَ: مٹی گرانا یا ڈالنا۔ اِنثَلّ: گرنا، زمین پر آ رہنا۔

٣ـ ثَلّ ـ ثلا و ثَلَلاً القومَ: قوم کو ہلاک کرنا۔ ـــ البیتَ: گھر کو گرا دینا۔ کہا جاتا ہے: ثَلّ اللهُ عرشَهم: اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ ثُلَّ عرشُهم: ان کی عزت جاتی رہی۔ اثَلّ اِثلالاً ہ: کو اس کی کی ہوئی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرنے کا حکم دینا۔ ـــ فمُهُ: کے دانت گر جانا۔ تثَلّل البیتُ: گھر کا ڈھیرے ڈھیرے گرنا، منہدم ہونا۔ الثَلَل: ہلاکت، دانتوں کا گرنا۔ الثِلّة جمع ثِلَل: ہلاکت۔

٤ـ ثَلَّ ـ ثَلاًّ و ثَلَلاً کلُّ ذی حافرٍ: لید کرنا۔ (ہر کھر والے جانور کا)۔

٥ـ اَثَلّ اِثلالاً الرجلُ: بہت بھیڑوں والا ہونا۔ الثَلَّة جمع ثِلَل و ثِلال: بھیڑوں کا ریوڑ، (مجازاً) اون۔ (کہا جاتا ہے: کساءٌ جَیِّدُ الثلة: بڑھیا اون کا کمبل) اون اور بالوں کا مجموعہ۔ الثُلَّة: انسانوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یفرّق بین الثلة و الثُلّة: فلاں شخص بھیڑوں اور انسانوں کی جماعت میں تمیز نہیں کرتا۔ المَثلة: صحراء میں سائبان۔

○ ثَلّ ـ ثَلاً ہ: کو تباہ کرنا، کی تخریب کرنا، کو ڈھا دینا، گرا دینا۔ ـــ عرشاً: تخت گرا دینا۔ اِنثَلّ: تخریب کا شکار ہونا، تخت کا گرنا، کا خاتمہ ہونا۔ ثُلَّة جمع ثُلَل: گروہ، جماعت، جتھا، ٹولی، ٹولہ، جمعیت، حلقہ، پارٹی (لوگوں کی) جماعت، کسی مہم پر بھیجا جانے والا فوجی ٹولہ۔

ثلب: ١ـ ثَلَبَ ـ ثَلبًا ہ: کو دھتکارنا۔

٢ـ ثَلَبَ ـ ثَلبًا ہ: کی غیبت کرنا، پر عیب لگانا، کو ملامت کرنا، گالی دینا۔ الثِلب و الثَلِب: عیبی، ذلیل۔ المِثلَب: عیب لگانے کا عادی۔ المَثلَبَة جمع مَثالِب: عیب (کہا جاتا ہے: ماعرفت فیه مَثلَبَةً: میں نے اس میں کوئی عیب نہیں جانا)۔ گالی۔ مثالِب الأمر: کسی امر کی خامیاں۔

٣ـ ثَلِبَ ـ ثَلَبًا الجلدُ: کھال کا سکڑنا۔

imarfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۴-ثَلِبَ -ثَلَبًا الشیءُ: کسی شئے کا رخنہ دار ہونا-ثَلِبَ -ثَلَبًا الشیءَ: میں رخنے ڈالنا-ثَلَّبَ الرجلُ: بہت بوڑھا ہونا اور دانتوں کا گر جانا-الثِلْب من الرماح: ٹوٹا ہوا نیزہ-الثِلْب جمع ثِلَبَة و اثلاب: بڑھاپے کی وجہ سے گرے ہوئے دانتوں والا اونٹ-الاثْلَب و الاِثْلَب جمع اَثالِب: پتھروں اور مٹی کا چورا۔

○ ثَلَبَ -ثَلْبًا ہ: پر تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا، کی برائیاں کرنا، پر تہمت لگانا، کی بے عزتی کرنا، کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، کے نام کو بٹہ لگانا-ثَلْب: رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی، غیبت، بدگوئی، بہتان، جھوٹا الزام، تہمت، بے عزتی-مَثْلَبَة جمع مَثالِب: خامی، نقص، عیب، بدنامی، دھبا، داغ، بے عزتی، بے قدری، تحقیر، خفت، ذلت، رسوائی-ثالب: ہتک آمیز، رسوا کرنے والا، بدنام کن، افترا بردار، بہتان آمیز، بہتان باندھنے والا، تہمت لگانے والا۔

ثلث ۱-ثَلَثَ -ثَلْثًا الشیءَ: کا ایک تہائی لینا-__ القومَ: قوم کا ثلث مال لے لینا، قوم کا تیسرا ہونا-ثَلَّثَ الاثنین: دو میں شامل ہو کر ان کو تین کر دینا-__ الشیءَ: کو مثلث بنانا-__ الشرابَ: کسی رقیق چیز کو اتنا پکانا کہ تیسرا حصہ جاتا رہے (اسی سے ہے العرق المُثَلَّث: عرق جس کا تیسرا حصہ بھاپ بن کر اڑ گیا ہو)-__ الشیءَ: کو تین بار کرنا-اَثْلَثَ القومُ: تین ہونا، تیس ہونا-آپ کہتے ہیں: کانوا تسعة و عشرین فَاَثْلَثُوا: وہ انتیس تھے، تیس ہو گئے-الثلاثة مونث ثلاث (ع ح): تین-ذو الثلاث: تین لڑیوں والی رسی-فَعَلَهُ ثلاثًا: اس نے اس کو تین مرتبہ کیا-الثِلْث: اونٹنی کا تیسرا بچہ-کہا جاتا ہے سقی زرعه الثِلْث: اس نے اپنی کھیتی کو تین دنوں میں ایک مرتبہ پانی دیا-الثُلْث و الثُلُث جمع اَثلاث: ایک تہائی-الثَلِيث بھی اسی معنی میں ہے-الثلاثاء و الثُلاثاء و یوم الثلثاء: منگل-تثنیہ: ثُلاثاءان جمع ثُلاثاوات و ثُلاثاءات و اثالث-ثُلاثَ او مَثْلَثَ: کہا جاتا ہے: اتوا ثُلاثَ او مَثْلَثَ: وہ تین تین (کرکے) آئے-یہ غیر منصرف ہے اور اس میں مذکر و مونث برابر ہیں-المِثْلَث جمع مَثالِث (مو): تین لٹوں کا تانت، سارنگی کی تیسری تار-المَثْلُوث: تین سے مرکب، جس کا تیسرا حصہ لیا گیا ہو-__ من الحبال: تین لڑیوں سے بنی ہوئی رسی-الثالوث: جو تین سے مرکب ہو-الثالوث الاقدس: تثلیث، توحید فی التثلیث: باپ بیٹا اور روح القدس کے ایک ہونے کا عقیدہ-عقیدہ تثلیث-اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور روح القدس کے ایک ہونے کا عقیدہ-سرّ التثلیث: عیسائیوں کے نزدیک ذات الٰہی میں تین خدائی شخصوں کا وجود-المُثَلَّث من الحروف: تین نقطوں یا حرکتوں والا حرف-ہ تین ضلعوں والی شکل-سہ زاویاتی شکل-الثلاثون: تیس (مذکر و مونث)-المثلوث من الاکسیة: اون پشم اور بالوں کا کمبل۔

۲-الثُلُثی من الخطوط: موٹے حرفوں والا خط-المُثَلَّث و المُثَلِّث: شاہ سے اپنے قریبی کی غیبت کرنے والا-الثِلْثان و الثُلْثان (ن): مکو کا پودا۔

○ ثَلَّثَ ہ: کو تگنا کرنا، تین گنا کرنا، تین بار کرنا-ثُلُث: لمبے لمبے حرفوں میں خوش نویسی کا سجاوٹ کے لئے لکھنے کا اسلوب-ثلاثًا: تین بار، تین دفعہ، تین مرتبہ-ثُلاثِی: تیسرے درجہ کا، (ارضیات کا) دور ثالث-ماقبل الثلاثی: ماقبل دور ثالث-ثلاثة عشر مونث ثلاث عشرة: تیرہ (۱۳)-الثالث: تیسرا-ثالثًا: تیسری بات یہ ہے کہ، تیسرے-ثالثة: ایک سیکنڈ کا ۶۰/۱-ثلاثون: تیس-الثلاثاء و یوم الثلاثاء: منگل-ثُلاث و مَثْلَث: بیک وقت تین تین-ثُلاثِی: سہ طرفہ، سہ گانہ، تین حصوں والا، تین پر مشتمل، تین اطراف والا، تین جزری، تین کا-ثلاثی الزوایا: مثلث، تکونا، تین والا، سہ گانہ-ثلاثی الورقات: تین پتوں کا تین پتا-ثالوث: عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث-باپ بیٹے اور روح القدس کے ایک ہونے کا عقیدہ، تین کا مجموعہ یا جوڑا، تین کی جوڑی-زَهرة الثالوث: بنفشہ کے قسم کے پھولوں کا نام-تثلیث: عقیدہ تثلیث-تثلیثی: اعلم مساحت سے متعلق یا علم مساحت کا-مُثَلَّث: تین گنا، تین نقطی حرف-مُثَلَّثی (جمع مُثَلَّثات) مثلث، سہ زاویاتی شکل-الراية المثلثة الألوان و المُثَلَّث و العلم المُثَلَّث: ترنگا جھنڈا-المُثَلَّثات و حساب المثلثات: علم مثلث، علم مساحت trignometry-المُثَلَّث الحاد: مثلث زاویہ حادہ (acute-angled triangle)-مثلث الزوایا: مثلثی، سہ زاویائی (triangular)-المثلث المتساوی الساقین: مثلث متساوی الساقین isocceles triangle-المثلث المتساوی الأضلاع: مثلث مساوی الاضلاع-المثلث القائم: مثلث قائم الزاویہ (right angled triangle)

ثلج: ۱-ثَلَجَ -ثَلْجًا و اَثْلَجَت السماءُ: آسمان کا برف برسانا، برفباری کرنا، آسمان سے برفباری ہونا، برف گرنا، برف پڑنا-آپ کہتے ہیں: ثَلَجَتْنا السماءُ: آسمان نے ہم پر برف برسائی، آسمان سے ہم پر برف باری ہوئی-جیسا کہ آپ کہتے ہیں: مطرتنا: آسمان نے ہم پر بارش برسائی-ثُلِجَت و اُثْلِجَت الارضُ: زمین پر برفباری ہوئی-اَثْلَجَ القومُ: لوگ برف میں پہنچے-الثلج جمع ثُلُوج واحد ثَلْجَة: برف-ماءٌ ثَلْجٌ: ٹھنڈا پانی-الثَلّاج: برف فروش-المَثْلَجَة: برف کی حفاظت کی جگہ، برف رکھنے کا صندوق، آئس بکس، ریفریجریٹر refrigerator-سرد خانہ، برف خانہ (cold storage)-المَثْلُوج: برف پڑی ہوئی چیز-ماءٌ مثلوجٌ: برف سے سرد کیا ہوا پانی-الثُلاجی: بہت سفید-نَصْلٌ ثُلاجیٌّ: بہت سفید پھل (اوزار کا)۔

۲-ثُلِجَ فؤادُه: بلید الطبع ہونا صفت مَثْلُوجُ الفؤاد: بلید الطبع، مردہ دل یا سرد مہر آدمی-اَثْلَجَ ماءُ البئر: کنویں کا پانی ختم ہو جانا-__ تِ عنه الحُمّٰی: کا بخار جاتا رہنا، کا بخار اتر جانا۔

۳-ثَلِجَ -ثَلَجًا و اَثْلَجَت نفسی به: جی کا کسی سے خوش ہونا، جی میں کسی سے ٹھنڈک پڑنا-ثَلَجَ -ثُلُوجًا ت نفسی به و الیه: جی کا کسی سے راحت پانا اور مطمئن ہونا-اَثْلَجَ ہ: کو خوش کرنا۔

○ ثَلَجَ -ثَلْجًا: ثلجت السماء: برف پڑنا، برفباری ہونا، برف گرنا، برف پڑ رہی تھی-برف گر رہی تھی، برفباری ہو رہی تھی-ثَلِجَ -ثَلَجًا ب: سے (دل روح) خوش ہونا، مسرور ہونا-ثَلَّجَ ہ: کو برف سے ٹھنڈا کرنا، کو منجمد کرنا، کو برف میں تبدیل کرنا-اَثْلَجَت السماء: برف پڑنا، گرنا، برفباری ہونا، برف برسنا، برفباری ہو رہی تھی، برف پڑ رہی تھی، برف گر رہی تھی، برف برس رہی تھی-__ ہ: کو ٹھنڈا کرنا، کو گیلا کرنا، تر کرنا، نم کرنا، مرطوب کرنا، سیلا کرنا-اَثْلَجَ صدرَه: کو خوش کرنا، محظوظ کرنا، کی دل جوئی کرنا-تَثَلَّجَ: برف پوش ہو جانا، برف بن جانا، منجمد ہونا، جم کر برف ہو جانا-ثَلْج جمع ثُلُوج: پالا، برف، مصنوعی برف-نُدْفَةُ الثلج: برف کا گالا-ثَلْجِیّ: برفانی، برف کی طرح سفید، برف کی طرح کا، برف کا، برف پوش، برف سے معمور، سرد مہر، بے مروت، نخ بستہ، برف جیسا-ثَلّاج جمع ثَلّاجُون: برف فروش-ثَلّاجَة جمع ثَلّاجات: برف کا تودہ، برف کی چٹان جو سمندر میں بہتی ہوئی آئے، سمندر میں بہتا ہوا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

برف کا تودہ، ریفریجریٹر، آئس بکس ice box۔
مَثْلَجَة جمع مَثَالِج: آئس بکس، ریفریجریٹر، برف خانہ۔مَثْلُوج: برف پوش، برف سے ڈھکا ہوا، برف کا، برفانی، سردمہر۔مَثْلُوجات: بہت ٹھنڈی کی ہوئی یا برف میں رکھی ہوئی کھانے پینے کی چیزیں، بہت ٹھنڈے کیے ہوئے مشروبات۔مُثَلَّج: بہت ٹھنڈا کیا ہوا، برف جیسا ٹھنڈا، یخ بستہ، برف پوش۔

ثلع: ثَلَعَ ۔ثَلْعًا رأسَه: کا سر توڑ دینا، پھاڑ دینا۔

ثلغ: ثَلَغَ ۔ثَلْغًا رأسَه: کا سر توڑ دینا، پھاڑ دینا۔ اَلْمُنْثَلِغُ مِنَ التمرِ: پھٹ کر زمین پر گری ہوئی کھجوریں۔آپ کہتے ہیں: تناثرت الثمار فَنثَلَغَتْ: پھل بکھر کر پھٹ گئے۔

ثلم: ثَلِمَ ثَلْمَةً في مالِهِ: کے مال سے کچھ جاتا رہنا۔ ثَلَمَ ۔ثَلْمًا و ثَلَّمَ الإناءَ: برتن کے کنارے توڑ دینا۔ثَلِم ۔ثَلَمًا و تَثَلَّمَ و انْثَلَمَ: برتن کے کناروں کا ٹوٹ جانا۔ثَلَمَ ۔ثَلْمًا الحائطَ: دیوار میں رخنہ ڈالنا۔الثَّلْم جمع اَثْلام و الثُّلْمَة في الحائط و نحوه: شگاف، رخنہ، ٹوٹی ہوئی جگہ۔ الأثْلَم: ظاہر رخنہ دار شے۔

○ ثَلَمَ ۔ثَلْمًا ہ: کو کند کرنا، کو دندانے دار یا ناہموار بنا دینا، کا کنارہ توڑ دینا، (دیوار وغیرہ) میں شگاف، سوراخ، درز، یا راستہ بنا دینا (شہرت عزت) کو گندہ کرنا، پر داغ لگانا، کو آلودہ کرنا۔ثَلِمَ ۔ثَلَمًا: دندانے دار ہونا یا ہو جانا، ناہموار ہونا یا ہو جانا۔ثَلَّمَ ہ: کی دھار موڑ دینا، کو کند کر دینا، کی دھار مار دینا۔ تَثَلَّمَ: کند ہو جانا۔اِنْثَلَمَ: (شہرت کا) گندہ ہونا، داغ دار ہونا، آلودہ ہونا، بے اعتبار ہونا، بدنام ہونا۔ ثَلْم: دندانہ، کھانچا، موکھا، شگاف، رخنہ، درز، سوراخ، راستہ، کھائی، کڑک، دراڑ، چاک۔ثَلْمُ الصيت: رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی۔ثُلْمَة جمع ثُلَم بمعنی ثَلْم۔سَدَّ ثُلْمَةً: خلا پر کرنا۔ثُلْمَةٌ لاتُسَدُّ: ایک خلا جسے بند نہ کیا جا سکے، ناقابل تلافی نقصان۔ثالِم: کند۔مَثْلُوم: گندی، داغدار (شہرت، عزت)۔مُتَثَلِّم: کند، کند کیا ہوا، بھاری (آواز)۔مُتَثَلِّمُ الصيت: بری شہرت والا، مشکوک شہرت والا، مشتبہ سا کھ والا۔

ثم: ا۔ثَمَّ ۔ثَمًّا الشيءَ: کو درست کرنا، کی اصلاح کرنا۔آپ کہتے ہیں: ثَمَمْتُ اُمُورِی: میں نے اپنے معاملات کی اصلاح کی۔الثَّمّ: ثَمّ کا مصدر بمعنی اصلاح، اسی سے ہے: کنا اهل ثَمِّهِ و رَمِّهِ: ہم اس کی اصلاح و مرمت کے اہل تھے۔کہا جاتا ہے: ہو ثَمُّهُ و رَمُّهُ او ثُمُّهُ و رُمُّهُ او ثِمُّهُ و رِمُّهُ: وہ اس کا عمدہ یا ردی ہے یا قلیل و کثیر ہے۔کہا جاتا ہے: ماله ثُمٌّ و لارُمٌّ: اس کے پاس کچھ نہیں۔

۲۔ثَمَّتِ الشاةُ النبتَ بِفِيهَا: بکری نے گھاس کو اپنے منہ سے اکھیڑا۔الثُّمَّة: سوکھی گھاس کا مٹھا۔ الثُّمام واحد ثُمامه: ایک قسم کی گھاس جو کمزور ہوتی ہے اور لمبی نہیں ہوتی۔المِثَمُّ مِنَ الناس: اچھا برا ہر قسم کا کھانا کھا لینے والا۔

۳۔اِنْثَمَّ الشيخُ: بوڑھا اور سن رسیدہ ہونا۔صفت: ثِمَّة۔الجسمُ: جسم کا گلنا، کمزور ہونا۔

۴۔انْثَمَّ عليه: پر ٹوٹ پڑنا۔

۵۔ثَمَّ و ثَمَّةَ و ثَمَّتَ: وہاں (دور کے لئے اسم اشارہ)۔ثُمَّ: (حرف عطف ترتیب و تراخی کیلئے آتا ہے۔جب اس پر ت داخل کی جائے تو ثُمَّتَ کہا جاتا ہے)۔پھر، تب، بعد ازاں۔

○ ثَمَّ: وہاں: مِن ثَمَّ: چنانچہ، یہاں سے، ادھر سے، اب سے، بعد ازاں، اس لئے، اس واسطے، اُس وجہ سے۔ثُمَّ: تب، چنانچہ، اسی سبب سے، مزید برآں، اس سے بڑھ کر، علاوہ ازیں، سوا، اس کے سوا، اس پر بھی، بلکہ، اور پھر، اور ایک دفعہ پھر۔كَلَّا ثُمَّ كَلَّا: نہیں، سو بار نہیں۔مِن ثُمَّ: تب، پھر، اس کے بعد، اس لئے، اس وجہ سے، چنانچہ۔ثَمَّة (ثَمَّتَ): وہاں، وہاں ہے لیس ثمة: وہاں نہیں ہے۔علی طرف الثُّمام: آسان رسائی میں، قریب ہی۔جَعَلَهُ علی طرفِ الثمام: اس نے اسے بآسانی قابل فہم بنا دیا، اس نے سب کے لئے اسے معقول طور پر پیش کیا یا قابل قبول طور پر پیش کیا۔

ثما: ثَمَأَ ۔ثَمْأً ہ: کو چربی کھلانا۔الرأسَ: سر کچلنا۔ـــ الانفَ: ناک کی نوک توڑنا جس سے خون بہنے لگے۔ اِنْثَمَأَ: سر کا کچلا جانا۔

ثمج: ثَمَجَ ۔ثَمْجًا ہ: کو ملانا، مخلوط کرنا، خلط ملط کرنا۔ المُثَمِّجُ: مختلف رنگوں سے کپڑے رنگنے والا۔

ثمد: ا۔ثَمَدَ ۔ثَمْدًا الشيءُ فلانًا: کسی شئے کا کسی شخص کے سب مال صرف کرانے کا سبب بن جانا۔ـــ الناقةَ بالحلب: دوہنے میں اونٹنی کا دودھ کو ستک جانا۔المَثْمُود مِنَ الرجال: وہ آدمی جس کو مانگنے والوں کی زیادتی کنگال کر دے۔

۲۔ثَمَدَ ۔ثَمْدًا و اَثْمَدَ و اِسْتَثْمَدَ الماءَ: پانی جمع کرنے کے لئے حوض کی طرح گڑھا بنانا۔اِثَّمَدَ و اثْتَمَدَ: تھوڑے پانی کی طرف جانا، پانی کے گڑھے کی [illegible] جاڑے کے موسم کا جمع شدہ تھوڑا پانی جو گرمیوں میں خشک ہو جائے، بارش کے پانی کا گڑھا۔

marfat.com

۳۔اِسْتَثْمَدَہ: سے بخشش مانگنا۔

۴۔الإثْمِد و الأثْمُد (ك): سرمہ کا پتھر، اس کو کیمیا کے جاننے والے انٹیمو ان کہتے ہیں۔

ثمر: ا۔ثَمَرَ ۔ثُمُورًا و اَثْمَرَ الشجرُ: درخت کا پھلدار ہونا صفت: ثامِر و مُثْمِر۔اَثْمَرَ الشجرُ الثمرَ: درخت کا پھل لانا۔ـــ القومَ: قوم کو پھل کھلانا۔اِسْتَثْمَرَ الشيءَ: کو پھل دار بنانا۔ـــ الرجلُ: پھل پانا۔الثَّمَر واحد ثَمَرَة و ثَمْرَة جمع ثِمار و جمع الجمع اَثْمار و ثُمُر (ن): (درخت کا) پھل۔الثَّمَرَة: پھل، نسل، اولاد۔ثَمَرَةُ السوط: چابک کے سرے کی گرہ۔اسی سے ہے: اَمَرَ الجلادَ ان يدق ثمرة سوطه: اس نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ اپنے کوڑے کے سرے کی گانٹھ کو کچل لے۔تا کہ وہ مضروب پر ہلکا ہو۔الثَّمْرَاءُ مِن الشجر: پھل دار درخت۔ارضٌ ثمراءُ: بہت پھلوں والی زمین۔الثامِر: لوبیا۔

۲۔ثَمَرَ ۔ثُمُورًا الرجلُ: کا مال بڑھنا، متمول ہونا، مالدار ہونا۔ثَمَّرَ مالَه: مال کو بڑھانا دولت زیادہ کرنا۔الثَّمَر واحد ثَمَرَة و ثَمْرَة جمع ثِمار و جمع اَثْمار و ثُمُر: مال کی قسمیں۔

۳۔ثَمَرَةُ اللسان: زبان کی نوک۔ثَمَرَةُ القلب: دوستی، الفت، اسی سے ہے: خَصَّنِي بثمرة قلبه: اس نے مجھے اپنی دوستی کے لئے مخصوص کیا۔

○ ثَمَرَ ۔ثُمُورًا: پھلدار ہونا، اَثْمَرَ: پھلدار ہونا۔ اِسْتَثْمَرَ ہ: سے فائدہ اٹھانا، سے استفادہ کرنا، کے لئے مفید ہونا، سے پوری طرح استفادہ کرنا، کو پورا استعمال کرنا، کو برتنا، استعمال کرنا، یا استعمال میں لانا، کا مصرف ڈھونڈنا، منفعت بخش طور پر (روپیہ) لگانا۔ ثَمَر جمع ثِمار و اثمار: پھل، میوہ، نتیجہ، انجام، اثر، تاثر، منافع، نفع، پیداوار، فائدہ، منفعت۔ثَمَرَة (ثمر کا واحد) جمع ثَمَرات: پھل، میوہ، نتیجہ، اثر، تاثر، پیداوار، نفع، فائدہ، منفعت۔اِسْتِثْمار: پورا استعمال، ناجائز انتفاع، استحصال، کار براری، اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنا، نفع بخش استعمال، استعمال، استفادہ۔ مُثْمِر: پھلدار، بارور، نتیجہ خیز، پیداواری، پیدا کرنے کے قابل، بارآور، زرخیز، نفع کا، منفعت بخش، نفع بخش، پُر منفعت۔مُسْتَثْمِر جمع مستثمرون: استحصال کنندہ، نفع پانے والا، فائدہ اٹھانے والا۔

ثمل: ا۔ثَمَلَ ۔ثَمْلًا ہ: کو کھلانا، پلانا، کا کام کرنا۔ـــ ہ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کی فریاد کو پہنچنا۔ ثِمالُ القوم: قوم کا فریادرس۔

۲۔ ثَمِلَ ـَ ثَمَلاً: شراب سے مست ومخمور ہونا۔ صفت: ثَمِلٌ۔ أثْمَلَ ہ: کومست ومدہوش کرنا۔ تَثَمَّلَ مَا فِي الأَنَاء: برتن کی چیز کو پینا۔

۳۔ أَثْمَلَ اللبنُ: دودھ کا بہت جھاگ والا ہونا۔ ـــ و ثَمَّلَ اللبنَ: دودھ کو ہلانا کہ اس میں جھاگ اٹھ آئے اور زیادہ ہو۔ الثُمالَة: جھاگ۔ الثَمِيل: کھٹا دودھ۔

۴۔ ثَمَّلَ الشیءَ: کو چھوڑ دینا۔ أَثْمَلَ الشیءَ: کو باقی رکھنا۔ الثَمَلَة جمع ثُمُول و الثُمْلَة جمع ثُمَل و الثَمِيلَة جمع ثَمِيل و ثَمَائِل و الثُمَالَة جمع ثُمَال: برتن یا حوض میں بچا ہوا پانی وغیرہ۔ الثُمَال و المُثَمَّل: زہر قاتل۔ المَثْمَلَة: بڑا حوض، پانی کی دلدل، پانی جمع ہونے کی جگہ، گندے پانی کے حوض۔ المِثْمَلَة: حوض کا کیچڑ، چرواہے کا تھیلا جو وہ اپنے کندھے پر ڈالے رکھتا ہے۔

○ ثَمِلَ ـَ ثَمَلاً: مست، متوالا یا مخمور ہونا۔ أَثْمَلَ ہ: کو مست، متوالا یا مخمور بنا دینا، کو مدہوش کرنا، سرشار کرنا، مست کرنا، بے ہوش کرنا، بے خود بنانا۔ ثَمَل: سرشاری، نشہ، بے خودی، بدمستی، شراب خوری۔ ثَمَلَة: بدمستی، بلانوشی، نشے کا دورہ، غلبہ۔ ثَمِل: پیئے ہوئے، نشہ میں، شرابی، نشہ باز، مخمور، مدہوش، نشہ چڑھا ہوا۔ ثُمَالَة: بچا کھچا، بقیہ، تلچھٹ، کف، جھاگ، پھین، میل، فضلہ، پھپھوندی، گاد، جھاگ دار شراب سے پیالہ کا لبریز ہونا، پھیں۔

ثمن: ۱۔ ثَمَنَ ـُ ثَمْناً الرجلَ: کے مال کا آٹھواں حصہ لینا۔ ـــ الشیءَ: کا آٹھواں حصہ لینا۔ ـــ القومَ: قوم کا آٹھواں ہونا۔ ثَمَّنَ الشیءَ: کو آٹھ ضلعوں والی بنانا، کے آٹھ رکن بنانا۔ أَثْمَنَ القومُ: آٹھ ہونا۔ الثُمُن و الثُمْن جمع أَثْمان: آٹھواں جزء یا حصہ (ثمین بھی اسی معنی میں ہے)۔ أتوا ثُمَانَ و مَثْمَنَ: وہ آٹھ آٹھ کی تعداد میں آئے۔ الثمانِية مؤنث ثمان (ع ح): آٹھ۔ ثمانيةَ عَشَرَ رَجُلاً و ثمانيَ عَشْرَةَ امرأةً: آٹھ مرد اور آٹھ عورتیں۔ الثامِن: آٹھواں۔ الثَمانُون: اسی (۸۰)۔ المُثَمَّن (ہ): ہشت پہلو۔

۲۔ ثَمُنَ ـُ ثَمَانَةً الشیءُ: قیمتی ہونا، بہت قیمت والا ہونا۔ ثَمَّنَ الشیءَ: کی قیمت کا اندازہ کرنا۔ أَثْمَنْتُ المالَ زیداً و لزیدٍ: میں نے زید کو مال کی قیمت دے دی۔ الثَمَن جمع أَثْمان و أَثْمِنَة و أَثْمُن: بکی ہوئی چیز کا عوض، قیمت۔ المُثَمَّن: قیمت لگائی ہوئی چیز۔

○ ثَمَّنَ ہ: کی قیمت تشخیص کرنا، آنکنا، کی قیمت کا انداز لگانا، (محصول وغیرہ) تشخیص کرنا، لگانا، مقرر کرنا (خرچ وغیرہ) کا تخمینہ لگانا، کسی چیز کا اندازہ لگانا یا کرنا، کسی چیز کی قیمت لگانا یا مقرر کرنا۔ لا یُثَمَّنُ: انمول، بے انداز، بے حد، بہت ہی زیادہ۔ ثَمَن: قیمت دام، مول، قدر و قیمت۔ ثَمِين: قیمتی، گراں بہا، بیش قیمت، گراں، مہنگا۔ أَثْمَن: زیادہ قیمتی، زیادہ گراں بہا، زیادہ بیش قیمت، زیادہ گراں۔ تَثْمِين: موازنہ، اندازہ، تخمینہ، جانچ، تشخیص، تعیین، قیمت کا اندازہ، مالیت، آنکنا، شرح بندی، درجہ بندی، درجہ، تقسیم۔ مُثَمِّن: اندازہ لگانے والا، تخمینہ لگانے والا، قیمت لگانے والا۔ خبیر مثمن: ٹیکس مقرر کرنے والا، محصول قائم کرنے والا، تشخیص کنندہ۔ مُثَمَّن: قیمتی، گراں بہا، قیمت لگایا ہوا، آنکا ہوا، قدر کیا ہوا، بڑی قدر کیا ہوا، بہت عزیز رکھا یا جانا ہوا۔ مُثْمَن: قدر و قیمت کی چیز۔ ثُمْنَة جمع ثُمُنَات: ایک پیمانہ۔ مُثَمَّن: آٹھ گنا، ہشت پہلو۔ الثَمَن الأَصْلِيّ: کسی چیز کو خام مال سے مصنوعات کی شکل میں بنانے کا مول یا جس قیمت پر کوئی چیز نفع کے بغیر فروخت کی جائے۔ (cost price)۔ الثَمَنُ الأَسَاسِيُّ: تمسکات کا اصلی نرخ، مساوی قیمت، برائے نام قیمت۔

ثن: الثُنَّة جمع ثُنَن: گھوڑے کے پاؤں کے پیچھے کے بال (گھوڑے کے ٹخنہ کے)۔

ثند: الثَنْدُؤَة و الثُنْدُوَة جمع ثَنَاد (ع ا): (مرد کی) چھاتی۔

ثنی: ثَنَى ـِ ثَنْياً الشیءَ: کو موڑنا، لپیٹنا، تہہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ثنى صدرَہ: اس نے اپنے دل میں دشمنی چھپائے رکھی۔ تثنّى الشیءُ: مڑنا۔ ـــ في مشيه: چلنے میں جسم کو ایک جانب جھکانا۔ ـــ في صدري كذا: (میرا) تردد کرنا۔ اِنْثَنَى و اثَّنَى: مڑنا، دوہرا ہونا۔ اِثْنَوْنَى صدرُہ على البغضاء: کے سینے میں بغض وعداوت بھری رہنا۔ الثِنْي جمع أَثْناء من الثوب: تہہ، شکن، چنت۔ آپ کہتے ہیں: ارسلتُہ ثِنْيَ كتابي: میں نے اس کو اپنے خط میں لپیٹ کر بھیجا۔ ـــ من الحيّة: کنڈلی۔ ـــ من الوادي: موڑ۔ ـــ من الليل: گھڑی، وقت۔ اثناءَ الكلام: دورانِ گفتگو۔ آپ کہتے ہیں: جاؤوا في اثناء الامر: وہ کام کے درمیان میں آئے۔ الثِناء: اونٹ کو باندھنے کی دوہری رسی۔ المَثْنَى جمع المثاني من الوادي: وادی کا موڑ۔ المَثَانِي: قرآن کریم کی آیتیں۔ ـــ من ... : کسی چیز کی دو قسمیں اور طاقتیں۔ المَثْناة جمع مَثَانِية: کجی، تہہ، لپیٹ، اون یا بالوں وغیرہ کی رسی۔

۲۔ ثَنَى ـِ ثَنْياً زَیداً: کا دوسرا ہونا۔ آپ کہتے ہیں: هذا واحد فاثْنِه: یہ ایک ہے، تم دوسرے ہو جاؤ۔ فلانٌ لا يَثْنِي ولا يَثْلُث: فلاں شخص چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، چل نہیں سکتا۔ ـــ عليه بضربةٍ ثانيةٍ: اس نے اس کو دوبارہ پیٹا۔ ثَنَّى الشیءَ تَثْنِيَةً: کو دوہرا کرنا۔ ـــ الكلمةَ: کلمہ میں تثنیہ کی علامت لگانا۔ الحرفَ: حرف پر دو نقطے لگانا۔ ـــ بالامر: ایک کام کے ساتھ دوسرا کام متصل ہی کرنا۔ أَثْنَى الرجلَ: کا دوسرا ہونا۔ ـــ و اِثْنَنَى واثَّنَى عليه بالضرب: کو دوبارہ پیٹنا۔ الثَانِي مونث الثانِية: دوسرا۔ الثِنَى جمع ثِنْيَة: اعادہ کی ہوئی بات۔ ـــ و الثُنْيان: آقا سے مرتبہ میں کم۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ ثنيةُ اهل بيته: وہ اپنے گھر والوں میں سب سے کمتر ہے۔ الثَنِيّ جمع ثِنَاء و ثُنْيان: جانور جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں۔ ثَنِيَّة جمع ثَنَايا: سامنے اوپر نیچے کے دو دو دانت۔ المَثْنَى جمع المَثَانِي (مو): بربط یا باجے کا دوسرا تار۔ ـــ من الدابة: جانور کے گھٹنے اور کہنیاں۔ أتوا ثُنَاءَ و مَثْنَى: وہ دو دو کی تعداد میں آئے۔ (غیر منصرف ہے اور مذکر و مونث دونوں کے لئے آتا ہے)۔ اِثْنانِ مونث ثِنْتَان و اِثْنَتَان: دو۔ الاثنان و یوم الاثنین: پیر کا دن۔ الثَنَائِيّ من الألفاظ: دو حرفی لفظ۔

۳۔ ثَنَى ـِ ثَنْياً الشیءَ: کو روکنا۔ ـــ زیداً: زید کو حاجت سے روکنا۔ اِنْثَنَى و اِثَّنَى عنه: سے پھر جانا۔ اِسْتَثْنَى الشیءَ: کو مستثنی کرنا۔ ـــ فلاناً و على فلان: کو غیر کے حکم سے خارج کرنا۔ الثَنِيَّة: استثناء۔ کہا جاتا ہے: حَلَفَ يَميناً لَيْسَ فِيهَا ثَنِيَّةٌ: اس نے بغیر استثناء کے قسم کھائی۔ الثَنْوَى و الثُنْيا: جسے مستثنی کیا گیا ہو۔ ـــ من الجزور: مذبوح کی سری اور پائے۔

۴۔ أَثْنَى عليه: کی تعریف کرنا۔ تَثَانَوا عليه: پر اپنی مہربانیاں ظاہر کرنا۔ الثَنَاء جمع أثنية: تعریف، حمد و ثناء۔

۵۔ الثانية جمع الثَوَانِي: سیکنڈ (second)، الاثنى عَشَرِيّ (ع ا): معدے کی طرف سے پہلی باریک انتڑی یا آنت۔ الثَنِيَّة گھاٹی کا راستہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ طَلَّاعُ الثَنَايا: فلاں شخص مشقتوں کو بہت برداشت کرنے والا ہے۔ تَثْنِيةُ الاشتراع: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسفار میں سے پانچویں کتاب۔

maarfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ثَنَی -ثَنْیاً ہ: کودگنا کرنا، تہہ کرنا، کے نیچے تہہ کرنا، کو موڑنا، جھکانا، خم کرنا۔ ــــ ہ عن: کو سے موڑنا، دور رکھنا، روکنا، سے باز رہنے کو کہنا، کو سے منع کرنا۔ ثَنَی عِنانَ فرسِہِ: وہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑا کر لے گیا۔ ثَنَّی ہ: کو دوگنا کرنا، کو دوبارہ کرنا، دہرانا، میں پلیٹ ڈالنا، چنٹ ڈالنا۔ اَثْنَی علی: کی تعریف کرنا، ستائش کرنا، کے گن گانا، کی تعریف کے پل باندھنا۔ اثنی علیہ عاطر الثناء: کا نہایت مدحیہ الفاظ میں ذکر کرنا۔ تَثَنَّی: دوگنا ہونا، دوہرا ہونا، دہرایا جانا، جھکنا، تہہ ہونا، جھولتے ہوئے یا لپکتے ہوئے چلنا۔ اِنْثَنَی: جھکنا، خم ہونا، مڑنا، تہہ ہونا، پیچھے کو مڑنا۔ ــــ عن: سے پھرنا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ ــــ اِلی: کی طرف مڑنا، کی طرف رخ کرنا، پر اپنے خیالات اور طاقت کو مرکوز کرنا۔ استثنی ہ من: کو سے مستثنیٰ کرنا۔ ــــ ہ: کو مستثنیٰ کرنا۔ ثَنْی جھکانا، تہہ کرنا، موڑنا، دور کرنا، ممانعت، روکنا، باز رکھنا، منع کرنا۔ ثِنْی جمع اثناء: تہ، شکن، پلیٹ، چنٹ، سلوٹ یا شکن، مورا، خم، پیچ کجی، گرہ، گانٹھ، ڈوری، رسی، دھاگا۔ ثِنْیاً بعدَ ثِنْیٍ: وقتاً فوقتاً۔ اَثناءَ: کے دوران۔ فی اثناء: کے دوران۔ فی اثناء ذلك، فی تلك الاثناء۔ فی هذه الاثناء: اس اثناء میں، اس دوران میں۔ ثَنْیَۃ جمع ثَنَیات: بمعنی ثِنْی یعنی، تہ، شکن، پلیٹ، چنٹ، سلوٹ یا شکن۔ ثَنِیَّۃ جمع ثَنایا: درمیانی اگلا دانت، تنگ راستہ، پہاڑی پگڈنڈی۔ فی ثنایا: میں، اندر، کے مابین، کے درمیان میں۔ فی ثنایا نفسہ: (اپنے) دل میں، اندر سے، باطنی طور پر۔ فی ثنایا الکتب: کتابوں میں۔ بینَ ثنایا: میں، اندر، کے مابین۔ طَلّاعُ الثنایا: بلند آرزوؤں والا۔ ثناء: تعریف، مدح، قدردانی، سفارش۔ ثُناءَ و مَثْنَی: ایک وقت میں دو، دو دو کی تعداد میں۔ ثَنَوِی ثنوی، ثنویت کا قائل، دوازلی قوتوں کا قائل۔ ثَنائِی مدحیہ، ثنائیہ۔ ثُنائی ذوگنا، دونا، دہرا، دو حصوں میں منقسم، جوڑا، جوڑے دار۔ ہر دور کے لئے ایک بار دو بنیادی، دو سازی یا دو آوازی گیت، راگ جو دو ملکر گائیں، دو آدمیوں کے گانے کا گیت۔ مُحَرِّكٌ ثُنائی المِشْوار: دو سائیکل کا انجن (two cycle engine)۔ ثُنائِیۃ دوئیت، عقیدۂ ثنویت۔ دوازلی قوتوں کا قائل ہونا۔ الثانی دوسرا، اگلا، آگے آنے والا، اس کے بعد۔ مابعد۔ ثانیاً و ثانیۃً ثانیاً، دوسرے درجے پر، دوم، دوسری بار، ایک بار پھر، دوبارہ، پھر سے ایک دفعہ اور، علاوہ ازیں، مزید برآں۔ نیز ثانی اِثْنَین جوڑے کا دوسرا، ثانِوی ثانوی، چھوٹا۔ اُمُورٌ ثانَوِیَۃ: ثانوی اہمیت کے امور، چھوٹے معاملات۔ مدرسۃ ثانویۃ: سیکنڈری سکول (ہائی سکول)۔ تسویغ ثانَوِیٌّ: آگے کرایہ پر دینا۔ تَثْنِیَۃ: دہرانا، اعادہ، پلیٹ ڈالنا، چنٹ ڈالنا، چوٹی گوندھنا، دوچند کرنا، دونا کرنا، دہرا کرنا، ازدواج، جوڑے۔ تثنیہ (گرامر) (انسانوں کے مجموعہ کا)، انجام، تمہ، تعریف، مدح، سفارش۔ تثنیۃ الاشتراع: تورات کی کتب میں سے پانچویں کتاب، سفر، استثناء۔ اِنْثناء: جھکنا، مڑنا، لچک، نرمی، ملائمت، تہ کرنے، لپیٹنے یا مڑنے کی قابلیت۔ قابلٌ للانثناء: تہ کئے جانے، لپیٹے جانے یا موڑے جانے کے قابل۔ اِنثناءَۃ جمع اِنثناءات: گرہ، گانٹھ، موڑ، خم، پیچ، کجی، خیدگی، جھونک، لچک، بل۔ استثناء: استثناء، محرومی، اخراج، ممانعت۔ باستثناءِ: کے استثنا کے ساتھ، بہ استثناء، کو چھوڑ کر، کے سوا، بجز۔ بدونِ استثناء: بلا استثناء۔ اِستثنائی: استثنائی، غیر معمولی، خاص۔ اِستثنائیاً: بطور استثنا، استثناء کے طور پر۔ اَحْوالٌ استثنائیۃ: ہنگامی صورت حالات۔ جلسۃ استثنائیۃ: فوری یا ہنگامی اجلاس۔ مَثْنِیّ: موڑا ہوا، تہہ کیا ہوا، لپیٹا ہوا، پلیٹ ڈالا ہوا، دوگنا کیا ہوا، دہرایا ہوا۔ مُثَنَّی: دگنا، دونا، دوچند، دہرا، خمیدہ، دور خا۔ صیغۂ تثنیہ میں۔ مستثنی من: سے مستثنیٰ، سے خارج کیا ہوا۔

ثاب ۱۔ ثَابَ ـُ ثَوْبًا و ثُؤُوبًا: لوٹنا۔ ــ ثَوَبانًا و اُثْوَبَ اِثْوابًا المریضُ: بیمار کا صحت یاب ہونا۔ ثَوَّب الرجلُ: جانے کے بعد واپس آنا۔ اَثابَ اِثابَۃً الرجلُ: مریض کا صحت یاب ہونا۔ اِسْتَثابَ المالَ: مال کو واپس مانگنا۔

۲۔ ثَابَ ـُ ثَوْبًا و ثُؤُوبًا الناسُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ ــ الماءُ: پانی کا حوض میں جمع ہونا۔ اَثابَ الـ... الحوضَ: حوض کو بھرنا۔ الثائب من البحر: بھاٹے کے بعد سمندر کا بڑھتا ہوا پانی۔ المَثاب و المَثابَۃ: مقام اجتماع، لوٹنے کی جگہ۔

۳۔ ثَوَّبَ ہ من کذا کو کا بدلہ دینا، معاوضہ دینا۔ اَثابَ اِثابَۃً الرجلَ: کو بدلہ دینا۔ ــ جزاءَ ہ کو جزا دینا۔ تَثَوَّبَ ثواب حاصل کرنا، کمانا۔ استثابَ الرجلَ سے بدلہ مانگنا۔ الثَّواب و المَثُوبَۃ و المَثْوبَۃ اچھے اور برے اعمال کی جزاء، خصوصاً اچھے اعمال کی جزا۔

۴۔ ثَوَّبَ الداعِي کپڑے کو ہلا کر اشارہ کرنا۔ الثَّوْبُ جمع ثِیاب و اَثْواب و اَثْوُب لباس۔ کہا جاتا ہے: اَسْلُلْ ثِیابَكَ من ثیابی مجھے چھوڑ دو اور جاؤ۔ طاهِرُ الثیاب پاک نفس، اچھے چال چلن کا۔ دَنِسُ الثِّیاب بدباطن، بداخلاق۔ الثَّوّاب: بزاز، کپڑے بیچنے والا، کپڑوں والا۔ الثِّیابیّ: کپڑوں کی حفاظت کا ذمہ دار۔

۵۔ ثَوَّبَ و تَثَوَّبَ المُصَلِّي: فرض کے بعد نفل نماز ادا کرنا۔

۶۔ الثائِب: بارش سے پہلے کی تند ہوا۔ الثَّوَاب: شہد، شہد کی مکھی۔ مَثابُ و مَثابَۃُ البئرِ: کنویں کے اردگرد کے اونچے پتھر۔

ثابَ ـُ ثَوبًا ل/اِلی: کی طرف لوٹنا، کے پاس واپس آنا۔ ــــ ب اِلی: کو کوئی چیز واپس کرنا۔ ثابَ اِلی نفسہ: ہوش میں آنا۔ ثابَ الیہ رُشدُہ: کے حواس ٹھکانے لگنا۔ ثَوَّبَ ہ: (اللہ تعالیٰ کا) کسی کو انعام دینا۔ اَثابَ ہ ہ: کا سے معاوضہ دینا، کو سے بدلہ دینا۔ ــــ ہ علی: کو کا انعام دینا۔ استثواب: انعام مانگنا۔ ثَوْب جمع ثیاب و اثواب: لباس پوشاک، کپڑا، سامان، مال، مجازاً مخصوص لباس، ظاہری شکل، وضع قطع، بھیس، اوٹ، آڑ، نقاب، مصنوعی چہرہ۔ ثِیاب: کپڑے، لباس، پوشاک۔ ثیاب السَّهْرَۃ: رسمی لباس، شام کا لباس۔ فی ثوبٍ بسیط: سادہ بلا تصنع شکل میں۔ طاهر الثیاب: بے عیب کردار کا حامل، بے داغ، جس پر حرف یا الزام نہ آسکے۔ ثَواب: بدلہ، جزا، سزا، تلافی، انعام، خوبی، وصف، نیک نامی۔ مَثُوبَۃ: بدلہ، جزا، سزا، انعام۔ مَثاب و مَثابہ: لوٹنے کی جگہ، مقام اجتماع، وعدہ کی ملاقات کا مقام، جس کے پاس بار بار جایا جائے، جس سے رجوع کیا جائے۔ ملجا، ماوی، جائے پناہ۔ مَثابَۃ: جگہ یا وقت جہاں یا جس میں کوئی چیز نمایاں ہو یا بار بار ہو، وضع قطع، طرز، ڈھنگ، طریقہ، انداز، چال ڈھال طور، اسلوب، چال، ریت، روش، روپ تراش، شکل، صورت۔ بِمَثابَۃ: کے مانند، کی مثل، کے ہم پلہ، مساوی، برابر، مترادف، کے برابر کا، کا ہم پایہ، مرادف، ہم قیمت، کے سے فرض منصبی والا کا سا مقصد رکھنے والا۔

ثاخ: ثَاخَ ـُ ثَوْخًا و ثَیَخانًا الاصبعُ فی الورم او الرِجلُ فی الوحل: انگلی کا ورم میں یا پاؤں کا کیچڑ میں دھنس جانا۔

ثار ۱۔ ثَارَ ـُ ثَوْرًا و ثَوَرانًا و ثُؤُورًا: جوش میں آنا (اسی سے ہے: ثارت الفتنۃ بینهم فتنہ و فساد ان میں بھڑک اٹھا)۔ ــ نفسہُ کا جی متلانا۔ ــ الیہ و بہ پر کود پڑنا، حملہ کرنا۔ ــ الغُبارُ او الدخانُ غبار یا دھویں کا بلند ہو کر پھیل جانا۔ ــــ الجرادُ ٹڈیوں کا نمودار ہونا۔ ثَوَّرَو اَثارَ و اِسْتَثارَ کو جوش دلانا، اڑانا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہمارے ادارہ کی اہم مطبوعات

فلسفہ شریعت اسلام	مترجم	احمد رضا اعظمی
تاریخ ادب عربی	مترجم	محمد نعیم صدیقی
العبرات	مترجم	محمد امین کھوکھر
النحو الواضح ابتدائیہ مکمل	مترجم	محمد امین کھوکھر
النحو الواضح ثانویہ مکمل	مترجم	محمد امین کھوکھر
اشراق نوری شرح قدوری	مترجم	محمد امین کھوکھر
اصول الشاشی	مترجم	محمد نعیم صدیقی
المنجد عربی اردو	مترجم	عصمت ابو سلیم
مصباح اللغات	مترجم	مولانا عبدالحفیظ بلیاوی
قصص النبیین مکمل	مترجم	ڈاکٹر اصغر اسد
القراۃ الرشید مکمل	مترجم	محمد امین کھوکھر
زاد الطالبین	مترجم	محمد امین کھوکھر
القراۃ الراشدہ	مترجم	محمد امین کھوکھر
القاموس الوسیط عربی اردو میڈیم سائز	مترجم	عصمت ابو سلیم
قاموس البشیر اردو عربی	مترجم	محمد یٰسین قصوری
تاریخ التفسیر و مفسرون	مترجم	امام ذہبی
حیات الحیوان الجاحظ	مترجم	احمد رضا اعظمی
البلاغت الواضح عربی اردو	مترجم	احمد رضا اعظمی

مکتبہ دانیال

غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

Ph:042-7660736
Mob:0333-4276640

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تَثَوَّرَ: جوش میں آنا، اٹھنا۔ ثاوَرَ مُثاوَرَۃً و ثِواراً ہ: پر حملہ کرنا۔ الثَّورۃ: جوش و ہیجان۔ الثائر (فا): کہا جاتا ہے: ثارَ ثائرُہ و فارَ فائرُہ وہ غضبناک ہو گیا۔ رأیتُہ ثائرَ الرأس میں نے اس کو بڑھاپے کے سبب سفید سر یا بکھرے ہوئے بالوں والا دیکھا۔ الثائرۃ جمع ثوائر شوروغل، عام بےچینی، گڑبڑ۔ ثَوَران و ثَوْرُ الشفق شفق کی سرخی اور انتشار۔

۲۔ ثَوَّرَ الامرَ کسی معاملہ میں کھود کرید کرنا۔ ـــ الکتاب معانی کتاب پر بحث کرنا۔

۳۔ الثَّور جمع ثِیران و اَثوار و ثِیار و ثِیَرۃ و ثِوَرۃ (ح) بیل۔ (فلک) آسمان کا ایک برج، ناخن کی جڑ کی سفیدی۔ الثَّوْرَۃ: گائے، کثرت۔ کہا جاتا ہے: ثـ ۔ رجال اور مال: بہت مرد، بہت ریت۔ ا ورۃ: بہت بیلوں والی زمین۔

○ ثارَ ثوراً ہلنا، حرکت کرنا، جوش میں آنا، بھڑکنا، جاگ اٹھنا، ابھارا جانا، برانگیختہ ہونا، اشتعال میں آنا، مشتعل ہونا، گرد و غبار کا اٹھنا، چکر کھانا۔ (سوال، مسئلہ، مشکل) پیدا ہونا۔ ـــ فی وجھہ: کے سامنے (سوال، مسئلہ، شکل) پیدا ہونا۔ ـــ اچانک شروع ہو جانا۔ ـــ علی کے خلاف بغاوت کرنا، ہتھیار اٹھانا، ـــ بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا۔ ثارَ ثائرُہ: طیش میں آجانا۔ اَثارَ ہ: کو ہلانا، متحرک کرنا، کو مضطرب کرنا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا، اشتعال دلانا، میں ہیجان پیدا کرنا، برہم کرنا، کو ہیجاں میں لانا، پریشان کرنا، دق کرنا، برافروختہ کرنا۔ ـــ ہ: (احساسات) کو ابھارنا، جگانا، بھڑکانا، جوش میں لانا۔ ـــ ہ کو وجود یا عمل میں لانا، کا باعث بننا، جگانا، ـــ مسألۃً: (سوال، مشکل) کی طرف توجہ دلانا، (سوال) کرنا، (مشکل) پیش کرنا۔ أثارَ ثائرتَہُ: کو طیش میں لانا، برانگیختہ کرنا، اشتعال دلانا۔ اِستَثارَ ہ: (جذبات وغیرہ) برانگیختہ کرنا، ابھارنا، بھڑکانا، ـــ ہ: برانگیختہ کرنا، (جذبات) بیدار کرنا، ابھارنا، ہوشیار کرنا۔ ـــ ہ من: کی (چیخیں) نکلوانا ـــ ہ علی: کو کے خلاف اکسانا۔ استثار غضبَہُ: کو ناراض کرنا، طیش میں لانا۔ ثَوْرٌ جمع ثیران: سانڈ، بچھڑا، بیل، برج ثور۔ شَوْرَبَۃُ ذَیلِ الثور: بیل یا بچھڑے کے دم کی یخنی۔ ثَوْرۃ: جوش، اضطراب، (وبا کا) پھوٹ پڑنا، (جنگ کا) اچانک شروع ہونا، پھٹ پڑنا، دورہ (طیش وغیرہ کا)، (کوہ آتش فشاں کا) پھٹنا۔ (جمع ثورات) انقلاب عظیم، بغاوت، (حکومت کے خلاف) باغیانہ تحریک، انقلاب۔ ثورۃ اھلیۃ: خانہ جنگی۔ مَثار: محرک، شوق، جذبہ، رغبت، مہیج، وجہ، سبب، مہمیز۔ مثار الجدل و مثار النزاع: وجہ نزاع۔ اِثارۃ: جوش، حرکت دینا، ہلانا، جوش میں لانا، بھڑکانا، ہلچل، اشتعال، اضطراب، شورش، تحریک، ترغیب، برانگیختگی، طیش، غیض و غضب، بیدار کرنا، مشتعل کرنا، اکسانا، بھڑکانا، جوش دلانا، ہوشیار کرنا، جھلاہٹ، ہیجان، سوزش، جلن۔ ثائر: جوش میں آیا ہوا، مضطرب، بہکی بہکی باتیں کرنے والا، از خود رفتہ، برہم، غضبناک، پاگل، سرکش، باغی، باغیانہ، سرکشانہ جمع ثُوّار: مفسد، فتنہ انگیز باغی، سرکش، متمرد، انقلابی۔ ثائرۃ جمع ثوائر ہنگامہ، شورش، بلوہ، دنگا، شور و غوغا، بے چینی، اضطراب، جوش و خروش، غضب، قہر، غصہ، طیش، تاؤ۔ مُثیر جوش دلانے والا، بھڑکانے والا، ہیجان پیدا کرنے والا، ابھارنے والا، اکسانے والا، برانگیختہ کرنے والا، اشتعال انگیز، محرک، نشاط انگیز، تیک اور جلن پیدا کرنے والا، ہیجان میں لانے والا، عامل (جمع عوامل)۔ مُثیرات: نشاط انگیز، چستی پیدا کرنے والی مشروبات یا دوائیں۔

○ ثوریُوم: تھوریم thorium (ایک تابکار دھاتی عنصر کا نام)۔

ثاع: ثاعَ ـُ ثَوْعاً الماءُ: پانی کا بہنا۔

ثول: ا۔ ثَوِلَ ـَ ثَوَلاً و ثالَ ـُ ثُؤُولاً ثَوَلانِ الشاۃُ خاصۃً: بکری کا دیوانی ہونا۔ ـــ الرجلُ: آدمی کا بیوقوف ہونا صفت: اَثْوَل مؤنث ثَوْلاءُ جمع ثُول و جج اثاوِلہ۔

۲۔ تَثَوَّلَ النحلُ: شہد کی مکھیوں کا جمع ہونا ـــ علیہ القومُ: کو لوگوں کا برا بھلا کہنا اور زد و کوب کرنا۔ اِنثالَ انثیالاً علیہ التراب: پر مٹی کا گرنا۔ کہا جاتا ہے: اِنثالَ علیہِ الناسُ مِن کلِّ وجہٍ: لوگ اس پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ اِنثالَ علیہ القولُ: کی زبان سے بے ساختہ بات نکل جانا۔ الثَّوْلُ: شہد کی مکھیوں کا جھنڈ۔ اس لفظ سے واحد نہیں ہے۔ الثَّوِیْلَۃ: عوام کے اجتماع کی جگہ، متفرق گھروں کے لوگوں کا اجتماع۔ کہا جاتا ہے: اَتَتْ ثَوِیلۃٌ مِنَ الناس: لوگوں کی ایک جماعت آئی۔

○ اِنثالَ علی کے گرد ہجوم کرنا، بھیڑ لگ جانا، جھنڈ میں اڑنا، اثر انداز ہونا۔ ثَوْل و ثَوْلُ النحل: شہد کی مکھیوں کی فوج۔

ثوم: الثُّوم واحد ثُومۃ (ن) لہسن ـ الثُّومَۃ: تلوار کے دستہ کے کنارے کی آرائش، آپ کہتے ہیں: سیفی ثومتُہُ مِن فِضّۃ: میری تلوار کے دستہ کا کنارہ چاندی کا ہے۔

marfat.com

پیڑوں میں لگانے کی خشکی، پلیتھن۔

ثوی: ا۔ ثَوَی ـِ ثَواءً و ثُوِیّاً المکانَ و فیہ و بہ: کسی جگہ ٹھہرنا، آباد ہونا۔ اَثْوَی اِثْواءً المکانَ و فیہ و بہ کسی جگہ ٹھہرنا، قیام کرنا۔ ـــ ہ فی المکان کو کسی جگہ ٹھہرانا۔ ـــ ہ کی مہمانی کرنا۔ ثَوَّی تَثْوِیَۃ ہ فی المکان کو کسی جگہ ٹھہرانا، قیام کرانا۔ تَثَوّی ہ: کا مہمان بننا۔ الثاوِیۃ و الثایَۃ اونٹوں کا باڑہ۔ الثُّوَّۃ جمع ثُوّی گھر کا سامان، راستہ کے نشان کے پتھر (راستہ کی رہنمائی کے لئے)۔ المَثْوَی جمع مَثاوٍ منزل۔ ابو مثواہ میزبان۔ ابو المثوی مہمان۔ ام مثواہ میزبان کی بیوی۔ الثَّوِیّ جمع اَثْوِیاء مؤنث ثَوِیّۃ قیدی، مہمان، مہمان خانہ۔ الثَّوِیَّۃ: عورت۔ (کہا جاتا ہے: ھذہ ثَوِیّۃ فلانٍ: یہ فلاں شخص کی بیوی ہے)، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ کا باڑہ، راستہ میں نصب کیا ہوا پتھر جو رات کے وقت چرواہے کے لئے رہنمائی کا کام دے، جب وہ اپنی بکریوں کے پاس جائے۔

۲۔ ثُوِیَ ـ ثَواءً و ثُوِیّاً الرجلُ آدمی کا مرجانا۔ ثُوِیَ دفن کیا جانا۔

○ ثَوَی ـِ ثَواءً و ثُوِیّاً و مَثْوًی ب: کسی جگہ ٹھہرنا، آباد ہونا۔ ثُوِیَ: دفن کیا جانا۔ اَثْوَی: ٹھہرنا، رہنا۔ ـــ ہ: کو مہمان بنانا، کو مہمان رکھنا، رہائش کی جگہ مہیا کرنا، پناہ دینا۔ ثَوِیّ: مہمان خانہ۔ ثُوَّۃ جمع ثُوّی: راہنما کھمبا (signpost) راستہ کا نشان۔ مَثْوًی جمع مَثاوٍ مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، رہنے کی جگہ، گھر، مکان، آرام گاہ۔

ثیب: ثَیَّبَ و تَثَیَّبَت المرأۃُ زوجَھا عورت کا موت یا طلاق کی وجہ سے اپنے خاوند سے جدا ہو جانا، مطلقہ یا بیوہ ہونا۔ صفت: ثَیِّب۔ المُثَیِّب: خاوند سے جدا شدہ عورت۔ الثَّیِّب: وہ عورت جو کنواری نہ ہو، شادی شدہ مرد یا عورت (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے یکساں) آپ کہتے ہیں: رجلٌ ثَیِّبٌ: شادی شدہ مرد۔ امرأۃ ثَیِّبٌ: شوہر سے جدا شدہ عورت، عورت کے لئے ثیّب کی جمع ثَیِّبات ہے۔

○ ثَیِّب جمع ثَیِّبات: غیر شادی شدہ عورت جو کنواری نہ رہی ہو، بیوہ، مطلقہ۔

ثیتل: ثَیْتَلَ و تَثَیْتَلَ الرجلُ: اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرنا۔ الثَّیْتَل (ح) جنگلی بکری جمع ثیاتِل۔

ثیل: الثِّیل و الثَّیِّل (ن): ایک گرہ دار بوٹی زمین پر پھیلتی ہے، عام لوگ اسے الثَّیِّن کہتے ہیں۔

ثین: الثَّیْن: موتی نکالنے کی جگہ، موتیوں میں سوراخ کرنے والا، ان میں سوراخ کرنے کا آلہ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ج

ج (تلفظ جیم) حروف تہجی کا پانچواں حرف اور حروف ابجد میں ۳ کے برابر۔

حاب حاب حَابًا مال کمانا، گیرومٹی بیچنا۔ الحاب جمع حُؤُوب گیرومٹی، اکھڑ اجڈ آدمی (کہا جاتا ہے: فلان جابُ الصَبْر. فلاں شخص کاموں میں پکا صابر ہے)۔ شیر۔ جابَۃُ البطن: ناف۔

جنث: ا۔ جُنِثَ جَاثًا و جُؤُوثًا خوف زدہ ہونا صفت: مَجُؤُوث (خوف زدہ)۔

۲۔ جَنِثَ جَاثًا الرجلُ: اٹھنے یا بوجھ اٹھانے میں ست ہونا۔ أَجْأَثَ ہ الحملُ: کو بوجھ کا بھاری لگنا۔ الجَأَّث: ست رفتار، ست رفتار، جھگی، غوغائی، شور کرنے والا۔

جأجا: جَأْجَأَ جَأْجَأَۃً بالإبل: جی جی کہہ کر اونٹ کو پانی پینے کے لئے بلانا، پکارانا۔ تَجَأْجَأَ عن کذا: سے رکنا، باز رہنا۔ الجُؤْجُؤُ جمع جَآجِی من الطائر و السفینۃ: پرندے کا سینہ، جہاز کا اگلا حصہ۔

○ جَاثِلِیق: دیکھو جثلیق۔

○ جُؤْجُؤ جمع جآجی: سینہ، جہاز کا اگلا حصہ، جہاز کی پیشانی، جہاز کے سامنے کا حصہ۔

جار: ا۔ جَأَرَ جَأْرًا و جُؤَارًا إلی اللّٰہ: بلند آواز سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، گڑگڑانا۔ الثورُ: بیل کا ڈکارنا۔

۲۔ جَأَرَ جَأْرًا و جُؤَارًا النباتُ: سبزی کا بڑھنا۔۔ تِ الارضُ: زمین کا لمبی گھاس والا ہونا۔ الجَأْر من النبت: لمبی اور شاداب سبزی۔۔۔ و الجَئِر و الجَأَّر: موٹا اور مضبوط آدمی۔۔۔ من الغیث: بہت بارش۔

○ جَأْر و جُؤَار: مویشیوں کی آواز، ڈکرانا، گائے کی طرح بولنا، گائے کی آواز نکالنا۔ (فعل: جَأَرَ جَأْرًا و جُؤَارًا)۔

○ (۱) جار گیس (۲) جار (امریکہ کے حبشیوں کی طرز کا ناچ اور گانا)۔

○ جَازُون: گھاس کا میدان، سبزہ زار، رمنا۔

جاش: ا۔ جَأَشَ جَأْشًا الیہ: کی طرف متوجہ ہونا۔

۲۔ جَأَشَ جَأْشًا قلبُہ: کا دل غم یا خوف سے مضطرب ہونا۔ الجَأْش جمع جُؤُوش: دل، سینہ۔ کہا جاتا ہے: رابطُ الجَأْشِ: بہادر۔ الجائشۃ: نفس۔

○ جَأْش: جذباتی الجھاؤ، ہل چل، پریشانی یا اضطراب، دل، روح۔ رَبَطَ جَأْشَہُ: خاموش، جذبات پر قابو پائے ہوئے، متحمل، ٹھنڈے مزاج کا یا اپنے آپ پر قابو پائے ہونا۔ ثابتُ الجاش: خاموش، متحمل، ٹھنڈا، اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے، جو مطلق دہشت زدہ نہ ہو۔ بِجَأْشٍ رابط: بلا جھجک، پکی جرأت سے۔

○ جَاکِتہ و جاکِتَۃ و جَاکِیتۃ: جیکٹ، کوٹ۔

جاف: جَأَفَ جَأْفًا و جَأَّفَ تجئیفًا ہ: کو پچھانا، خوف زدہ کرنا۔ جَأَفَ الشجرۃَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔ تَجَأَّفت الشجرۃ: درخت کا جڑ سے اکھڑ جانا۔

جال: ا۔ جَأَلَ جَأْلًا الصوفُ: اون کا اکٹھا ہونا۔۔ الصوفَ: اون کو اکٹھا کرنا۔ جَیْأَلُ و جَیْأَلَۃُ: بجو۔ (یہ دونوں لفظ غیر منصرف ہیں)۔

۲۔ جَئِلَ جَأَلَانًا: لنگڑا ہونا۔

○ جالُون: گیلن (gallon)۔

○ جَالِیری: گیلری (تھیٹر کی)

○ جام جمع جامات: کپ، پینے کا برتن، کشکول، پیانہ، کاسہ، پیالہ، ساغر، جام۔

○ جَامَکِیَۃ جمع جَامَکِیَات و جَوَامِك. تنخواہ۔

○ جامُوس جمع جَوَامِیس: بھینسا۔ جامُوسۃ بھینس۔

○ جَانِرك: چھوٹی سبز کشمش، منقی (ترکی لفظ) (واحد جانرکیہ)۔

○ جاہ: عہدہ، منصب، مرتبہ، رتبہ، درجہ، مقام، حیثیت، منزلت، شان و شوکت، جاہ، عظمت، تمکنت، شہرت، جلال، بزرگی، شان کبریائی، عزت، وقار، سربلندی، بڑائی شرف، شکوہ، آن بان، شرافت، عالی ظرفی۔

جاو: الجَاوَرس (ن): باجرہ۔

○ جاوَہ: جاوا (Java) (ایک ملک کا نام)۔ جَاوِی: جاوی، جاوا کا، ملک جاوا کا لوبان، ملک جاوا کا باشندہ جمع جاودن۔

○ جَاوْدَار: گھٹیا گیہوں، دیوگندم۔

○ جَاوِیش: سارجنٹ (شاوش و شاویش)۔

جای: جَأَی جُؤْیَۃً و جُؤُوَۃً الفرسُ: گھوڑے کا سیاہی مائل سرخ ہونا۔ صفت: أَجْوَأ مونث: جَأْوَاء: (سیاہی مائل سرخ)۔ جَأَی جَأْیًا الثوبَ: کپڑا سینا۔۔ الشیءَ: کو روکنا، چھپانا۔۔ علی الشیء: کو دانتوں سے کاٹنا۔

جبّ: ا۔ جَبَّ جَبًّا ہ: کو کاٹنا۔ اِجْتَبَّ الشیءَ: کو کاٹنا۔ الجُبُّ جمع أَجْبَاب و جِبَاب و جِبَبَۃ: گہرا کنواں، گڑھا۔ الأَجَبّ من الأَبْعِرۃ: کوہان بریدہ اونٹ۔

۲۔ جَبَّ جَبًّا ہ: پر غالب ہونا۔ جَابَّ مُجَابَّۃً و جِبَابًا ہ: پر غالب آنا، سے فخر میں مقابلہ کرنا۔

۳۔ جَبَّ جَبًّا النَخْلَۃَ: کھجور میں پیوند لگانا۔ تَجَابَّ الرجلان: ایک دوسرے کی بہن سے شادی کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۴۔ جَبَّبَ الفرسُ: سفیدی کا گھوڑے کے زانو اور ایڑی تک پہنچنا۔ (صفت مُجَبَّب) تیز چلنا۔

۵۔ اِجْتَبَّ: جبہ پہننا۔ الجُبَّة جمع جُبَب و جِبَاب: جبہ، زرہ۔ — من السِنان: بانس کا وہ حصہ جہاں نیزہ کا پھل پیوست ہو۔

۶۔ الجُبَّة جمع جُبَب و جِباب: آنکھ کے گرد کی ہڈی، کھر سے ملا ہوا پنڈلی کا حصہ۔ الجَبَاب و الجُبَاب: قحط۔

۷۔ جَبْجَبَ الرجلُ: سفر کرنا، موٹا ہونا۔ الجَبَاجِب: موٹی فربہ اونٹنیاں۔ ڈھول (جمع) الجَبْجَاب و الجُبَاجِب من المیاه: بہت پانی۔ الجُبْجُبَة جمع جَبَاجِب: چمڑے کا تھیلا (مٹی ڈھونے کا)۔

جبا: ۱۔ جَبَأَ ـَ جَبْأً و جِبَاءً و جُبُوءًا و جُبُوءَةً البصرُ: نگاہ کا کمزور ہونا۔ — السیفُ: تلوار کا چٹ ہونا۔ — الرجل: خوف کی وجہ سے باز رہنا اور واپس آنا صفت جُبَّأ و جُبَّاء: (بزدل)۔

۲۔ جَبَأَ ـُ علیه الحیَّةُ: کو سانپ کا سوراخ سے نکل کر خوف زدہ کرنا۔ — علی القوم: اچانک لوگوں کے سامنے نمودار ہونا۔ أَجْبَأَ علی القوم: بلند جگہ سے لوگوں پر اچانک نمودار ہونا۔ الجَبْءُ: پہاڑی۔

۳۔ جَبِیءَ ـَ جَبَأً: چھپنا۔ — عنه: باز رہنا، ڈرنا۔ أَجْبَأَ الشیءَ: کو چھپانا۔ — تِ الارضُ: زمین میں سرخ سانپ کی چھتری کا بکثرت ہونا۔ الجَبْءُ واحد الجَبْأَة جمع أَجْبُؤ و جِبَاة: سرخ رنگ کی سانپ کی چھتری، گیرو، پہاڑ میں بارش کے پانی کا گڑھا۔ ارضٌ مَجْبَأَة: زمین جس میں سرخ رنگ کی سانپ کی چھتری بکثرت پیدا ہو۔

جبت: الجِبت: بت، جادو، جادوگر، بے خیر آدمی۔

○ جَبْح جمع أَجْبُح و جِبَاح و أَجْبَاح: چھتہ، مہال، نحل گاہ۔

جبخ: ۱۔ جَبَخَ ـَ جَبْخًا: تکبر کرنا۔ — القداح و الکعابَ فی القمار: (جوئے میں) پانسہ پھینکنا۔

۲۔ الجَبْخانة (ا ع): میگزین (اس کے لئے عربی میں مَسْلَحَة ہے۔ یعنی جنگ میں استعمال کے لئے بارود اور بموں وغیرہ کا گودام، اسلحہ خانہ، گولہ بارود، توپوں کا گودام۔

جبذ: جَبَذَ ـِ جَبْذًا ہ: کو کھینچنا۔ — العنبُ: انگور کا چھوٹا اور خشک ہونا۔ اِجْتَبَذَ ہ: کو کھینچنا۔ جَبَاذِ: (کسرہ پر مبنی) موت۔

جبر: ۱۔ جَبَرَ ـُ جَبْرًا و جُبُورًا و جِبَارَةً العظمَ: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا۔ — ـُ جُبُورًا و جَبْرًا: شکستہ ہڈی کا درست ہونا۔ جَبَّرَ العَظْمَ: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا۔ اِنْجَبَرَ و تَجَبَّرَ و اجْتَبَرَ: ٹوٹی ہڈی کا درست ہونا۔ الجَبْر: صحیح سالم ہونا، ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ جَابِر (فا): ابُو جابر: روٹی۔ ام جابر: ہریسہ۔ الجِبارَة: ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی درستی کا پیشہ۔ — و الجَبِیرَة جمع جَبَائِر: شکستہ ہڈیوں پر باندھنے کی لکڑیاں یا پٹی۔

۲۔ جَبَرَ ـُ جَبْرًا و جُبُورًا و جِبَارَةً اللّٰهُ مصیبتَه: اللہ تعالیٰ کا کسی کے گئے ہوئے مال وغیرہ کو لوٹانا یا اس کا معاوضہ دینا۔ — و جَبَّرَ الفقیرَ: غریب کو امیر بنانا۔ تَجَبَّرَ: کی گذری ہوئی حالت کا پھر لوٹنا، گئی ہوئی چیز کا واپس آنا۔ — المریضُ: مریض کا چنگا ہونا۔ — النبتُ: چر جانے کے بعد سبزہ کا پھر اُگنا۔ اِجْتَبَرَ و اِسْتَجْبَرَ: غربت کے بعد امیر ہونا۔

۳۔ جَبَرَ ـُ ہ علی الامر: کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ أَجْبَرَہ علی الامر: کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ — ہ: کو مذہب جبریہ کی طرف منسوب کرنا۔ الجَبْر: قضائے الٰہی کے وقوع کا کلی طور پر مجبورانہ اعتقاد کرنا۔ الجَبْرِیَّة و المُجَبِّرَة: ایک اسلامی فرقہ جو انسان کو مجبور محض مانتا ہے (اس کے برعکس فرقہ قَدَرِیَّة کہلاتا ہے)۔

۴۔ تَجَبَّرَ: تکبر کرنا، سخت سرکش ہونا، صفت: جِبِّیر، الجَبْر: غرور، تکبر، مجبوری، بہادر آدمی۔ الجَبَّار: اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔ — فی صفات الخلق: مغرور و سرکش، تسلط والا، غالب (فک) برج جوزاء (مجازاً)۔ کہا جاتا ہے: طلع الجَبَّار: برج جوزا نے طلوع کیا۔ نخلة جَبَّارَة: اس قدر لمبا کھجور کا درخت کہ اس پر ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ الجَبَّارَة (ن): جنگلی درخت جو معروف درختوں میں سب سے بڑے درخت سمجھے جاتے ہیں، اس کی اونچائی کبھی ایک سو میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ الجَبَرُوت و الجَبْرُوت و الجَبَرُوت: مبالغہ کا صیغہ بمعنی قدرت، طاقت، عظمت۔

۵۔ الجَبْر: الجبراء، علم جبر (algebra)، الجُبَار: رائیگاں، ضائع، بے بدلہ۔ کہا جاتا ہے: ذَهَبَ دَمُهُ جُبَارًا: اس کا خون رائیگاں گیا، یعنی اس کا انتقام نہیں لیا گیا۔ انا مِنهُ خلاوَة و جُبَار: میں اس سے پاک اور بری ہوں۔ الجَبَائِر: کنگن اور بازوبند۔

○ جَبَرَ ـُ جَبْرًا و جُبُورًا ہ: (ٹوٹی ہوئی ہڈیاں) جوڑنا، کو بحال کرنا، تندرست کرنا، واپس کرنا، مرمت کر کے اصلی حالت پر لانا۔ — ہ: کو اپنے پاؤں پر [illegible] علی [illegible] کو زبردستی [illegible] کو مجبور کرنا۔ [illegible]

ڈھارس بندھانا، کو تسلی دینا، تشفی دینا، کی غمخواری کرنا، کو معاوضہ دینا، خوش کرنا، کی خاطر داری کرنا، کو ممنون کرنا، احسان مند کرنا، سے مصالحانہ یا مشفقانہ سلوک کرنا۔ جَبَّرَ: ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا جڑ جانا۔ جَابَرَہ: پر مہربانی کا یا دوستانہ سلوک کرنا، سے پر لطف ہونا۔ أَجْبَرَہ علی: کو پر مجبور کرنا۔ — علی: حکمرانی کرنا، اثر رکھنا۔ تَجَبَّرَ: غرور کرنا، مغرور ہونا، اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنا۔ تَجَبَّرَ اللّٰهُ بِابنِكَ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے، یعنی وہ اپنے پاس لے گیا ہے۔ اِنْجَبَرَ: بہتر ہوتے جانا، مرمت کیا جانا، بحال ہونا۔ جَبْر: ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا، طاقت، مجبوری، زبردستی، دباؤ، جبر، ناجائز دباؤ، طاقت، قسمت کا فیصلہ۔ جبرًا: بزور، طاقت کے بل پر زبردستی۔ علم الجَبْر: الجبراء یوم جبر البحر: قاہرہ میں مقامی تیوہار، جس دن دریائے نیل کا پانی خلیج میں (اب متروک) چھوڑ دیا جاتا تھا اور اب شہر کی نہر میں چھوڑا جاتا ہے اور اس طرح آبپاشی کے موسم کے آغاز کا دن منایا جاتا ہے۔ جَبْرِی: الجبراء کا، الجبراء کے متعلق، جبری لازمی، بالجبر۔ جَبَرِی: تقدیر اور قسمت سے عدم فرار کے عقیدہ کا حامل۔ جَبْرِیه۔ جَبَرِیة: ایک اسلامی مکتبہ فکر جو قسمت سے عدم خلاصی کی تلقین کرتا ہے، عقیدہ قضا و قدر جبریت۔ جَبَّار جمع جَبَّارون و جَبَابِر و جَبَابِرَة: دیو ہیکل، غیر معمولی قد و قامت کا انسان، عظیم الجثہ، دیو پیکر، ظالم، جابر، ستمگر، موذی، قادر مطلق (اللہ تعالیٰ)، عظیم، جسیم، بڑا، سات ستاروں کا مجموعہ۔ جَبَّارُ الخطوَة: طاقت ور طور پر ڈگ بھرنے والا، بڑے بڑے قدم اٹھانے والا۔ جِبَارَة: ہڈیاں جوڑنے کا کام۔ جَبِیرَة و جِبَارَة جمع جَبَائِر: ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر باندھی ہوئی کھپچی، کھپچی۔ جَبَرُوت: قدرت کاملہ، طاقت، ظلم۔ جِبْرِیَاء: غرور، تکبر، نخوت۔ تجبیر و تجبیر العظام: وہ طبی شعبہ جس کا ہڈیوں یا پٹھوں کے زخموں یا ان کی بیماریوں سے تعلق ہے۔ اجبار: مجبور کرنا، مجبوری، جبر، زور، زبردستی۔ اجباری: جبری، لازمی، ضروری، واجب، لازم، ناگزیر۔ التجنیدُ الإجباری: جبری بھرتی، جبری فوجی بھرتی۔ جَابِر و مُجَبِّر: ہڈیاں جوڑنے والا۔ مَجْبُور و مُجْبَر: مجبور، مجبور کیا ہوا۔

○ جَبْرَئِیل و جِبْرِیل: ایک برگزیدہ فرشتہ کا نام، جس کے ذمے نبیوں کے پاس وحی کا لانا تھا۔

جبز: ۱۔ جَبَزَ ـِ جَبْزًا ہ: کو کاٹنا۔ الجَبْزَة: ٹکڑا۔ کہا جاتا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
marfat.com
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۷-جز لہ من مالہ جزءۃً: اس نے اسے اپنے مال میں سے ایک حصہ دیا۔

۲-جَبُزَ جَبَازَۃً الخبزُ: روٹی کا خشک ہونا۔ صفت: جَبِیْز: اَلْجَبِیْزُ: خشک روٹی۔ الجِبْز: کنجوس، بخیل۔

جبس: تَجَبَّسَ فی مشیہ: تکبر و ناز سے چلنا۔ الجِبْس جمع أجْبَاس: بزدل، کمینہ، کند خاطر، فاسق (ب) چونا، ریچھ کا بچہ۔ الجِبِّیس جمع أجَابِیس: ریچھ کا بچہ، کمینہ، ناکارہ۔ الجَبُوس: رذیل، کمینہ، ناکارہ۔ الأجْبَس: کمزور، بزدل، کمینہ، ناکارہ۔

○ جَبَّسَ ہ: کو لیپنا، پوتنا، پر سفیدی پھیرنا، پلاستر لگانا، رنگ یا قلعی کرنا، تہہ چڑھانا، ملمع کرنا، کو جوڑنا، کو پلاستر سے جوڑنا، جمانا، کو سانچے میں ڈھالنا، پلاستر میں بٹھانا۔ جِبْس: جپسم، کھریا مٹی، پلاسٹر آف پیرس plaster of Paris۔ جَبَّاسَۃ: جپسم یا کھریا مٹی کی کان، پلاسٹر کی بھٹی۔ جَبْس واحد جَبْسَۃ: تربوز۔

جبص: جُبْصِیَّۃ (ن): لونگ کی قسم کا ایک پودا جس کی کئی قسمیں ہیں، بعض یورپی بعض ایشیائی اور ان میں سے بعض کی اس کے پھولوں کی وجہ سے کاشت کی جاتی ہے۔

جبل: ۱-جَبَلَ ـجَبْلاً ہ اللّٰہُ: کو اللہ تعالیٰ کا بنانا یا پیدا کرنا۔ کہا جاتا ہے: جَبَلَہُ اللّٰہُ علی الکرم: اللہ تعالیٰ نے کرم و سخاوت اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ الجِبْلَۃ و الجُبْلَۃ و الجَبَلَۃ و الجِبِلَّۃ: فطرت، طبیعت (کہا جاتا ہے: فلانٌ ذو جِبِلَّۃ: فلاں سخت مزاج ہے)۔ (جُبِلَتُہ علی الخیر: اس کی طبیعت میں خیر و بھلائی ہے) اصل، جڑ، چہرہ، چہرے کا سامنے کا حصہ۔ الجُبْل و الجُبْلَۃ: لوگوں کی ایک جماعت۔ الجَبَل: بھدا۔ کہا جاتا ہے: ھو جَبَلُ الوجہ: وہ بھدے چہرے والا ہے۔ الجِبِلِّیّ: طبعی، فطری۔ الجَبِیل و المِجْبَال: بدصورت۔ (کہا جاتا ہے: رجلٌ جَبِیلُ الوجہ: بدصورت چہرے والا) بدخلق۔ کہا جاتا ہے: امرأۃٌ مِجبال: بدخلق عورت۔ الجُبُلَّۃ: اصل، جڑ۔

۲-جَبَلَ ـجَبْلاً التراب: مٹی میں پانی ڈال کر اس کا گارا بنانا۔

۳-جَبَّلَ ہ: کے مختلف ٹکڑے کرنا۔

۴-أجْبَلَ ہ: کو کنجوس پانا۔ الجَبَل: کنجوس۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ جَبَلٌ: کنجوس آدمی۔

۵-أجْبَلَ: ناکام ہونا، رہنا۔ کہا جاتا ہے: طَلَبَ حاجۃً فأجْبَلَ: اس نے اپنی حاجت طلب کی مگر ناکام رہا۔

۶-أَجْبَلَ و تَجَبَّلَ و جَابَلَ المسافرُ: مسافر کا پہاڑ کی جانب جانا، پہاڑ میں داخل ہونا، اس میں سکونت پذیر ہونا۔ الجَبَل جمع جِبَال و أَجْبَال و أَجْبُل: پہاڑ۔ اِبنۃُ الجَبَل: سانپ، صدائے بازگشت، مصیبت۔ الجَبْلَۃ و الجُبْلَۃ و الجَبَلَۃ و الجِبِلَّۃ: قوت، زمین کی سختی۔ الجِبال: بدن، جسم۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ خطیرُ الجبال: فلاں شخص بڑے ڈیل ڈول والا ہے۔ المَجْبُول: بڑے ڈیل ڈول والا۔

۷-تَجَبَّلَ مَا عِنْدَہ: کا سب کچھ لے لینا۔

۸-الجَبْل: مکان کا صحن، بہت کثیر۔ حَیٌّ جِبْلٌ: بہت بڑا قبیلہ۔ الجُبَیْلَۃ (ع ا): مختلف کیمیائی عناصر پر مشتمل زندہ خلیّہ میں مرکزہ کے ساتھ زندہ بنیادی عنصر بنانے والا مادہ۔ الجُبْلَۃ: ہر چیز کی کثرت، خشک سال۔ المِجبال من السیوف: موٹی دھار والی تلوار۔

○ جَبَلَ ـجَبلاً ہ: کو ڈھالنا، کسی چیز سے بنانا، ڈھال کر بنانا، کی تشکیل کرنا، کو صورت دینا، وضع کرنا، گھڑنا، بنانا، گوندھنا، سانٹا۔ ــــ ہ علی: کو کے لئے کسی فطری طبیعت، مزاج، افتادِ طبع میلان یا رجحان کے ساتھ پیدا کرنا۔ جُبِلَ علی: کے لئے پیدا ہونا، فطری طور پر کچھ کرنے کا خواہاں یا کچھ کرنے کے لئے تیار ہونا، کے لئے میلان یا رجحان کا حامل ہونا۔ جِبِلَّۃ و جِبْلَۃ جمع جِبِلّات: طبعی رجحان، طبیعت، مزاج، افتادِ طبع۔ جَبَل جمع جِبَال و اَجبال: پہاڑ، پہاڑی سلسلہ۔ جبالُ الألب: کوہ الپس۔ جبال الاوراس: اوریس پہاڑ (مشرقی الجیریا میں)۔ جبل جلید: برفانی تودہ۔ جبل سِینا: سینائی پہاڑ۔ جبلُ طارق: جبرالٹر Gibraltar۔ جبلُ نار: کوہ آتش فشاں۔ جَبَلِی: پہاڑی، پہاڑ کا، پہاڑی کا، کوہستانی، پہاڑی ملک کا۔ جمع جبلیون: سکاٹ لینڈ کا پہاڑی باشندہ، کوہ پیا۔ جبلاوی: سکاٹ لینڈ کا پہاڑی باشندہ، کوہ پیا۔ جَبَلایۃ جمع جبلایات: مصنوعی غار، غار نما سرد خانہ، غار، کھوہ۔

جبن: ۱-جَبُنَ ـجُبْناً و جُبُناً و جَبَانَۃً: بزدل ہونا، کمزور دل ہونا۔ صفت: جَبَان جمع جُبَنَاء مونث جَبَانَۃ و جَبَان جمع جَبَانَات: جَبَّنَ الرجلَ: کو بزدلی پر اکسانا، ــــ و أَجْبَنَ الرجلَ: کو بزدلی کی طرف منسوب کرنا، کو بزدل پانا۔ اسی سے ہے: قَاتَلْنَاکُم فما أجْبَنَّاکُم: ہم نے تم سے قتال کیا تو تم کو بزدل نہیں پایا۔ الجَبِین: بزدل (مذکر و مونث دونوں کے

بزدلی۔ کہا جاتا ہے: الولد مَجْبَنَۃٌ مَبْخَلَۃٌ: بیٹا انسان کو بزدلی اور بخل پر اکساتا ہے اور بزدلی اور بخل کی دعوت دیتا ہے۔

۲-جَبَّنَ اللبنَ (ط): دودھ کا پنیر بنانا۔ تَجَبَّنَ اللبنُ: دودھ کا پنیر بننا اور پنیر کی طرح جمنا۔ الجُبْن و الجُبُن و الجُبُنّ: پنیر۔ جُبْنَۃ: پنیر کا ٹکڑا۔ الجَبَّان: پنیر فروش، پنیر والا۔ المَجْبَنَۃ: پنیر بنانے کی جگہ، ڈیری فارم، عام لوگ بکری کے بچے کی اوجھ کو مجبنۃ کہتے ہیں جس سے دودھ کا پنیر بن جاتا ہے۔

۳-تَجَبَّنَ الرجلُ: موٹا ہونا۔

۴-الجَبِین جمع أَجْبُن و جُبُن و أَجْبِنَۃ: پیشانی، پیشانی کی طرف۔ الجَبَّان و الجَبَّانَۃ جمع جَبَابِین: بلند ہموار اور بے درخت زمین، مقبرہ، صحراء۔

○ جَبُنَ ـجُبْناً و جَبَانَۃً عن: کو کرنے میں بہت زیادہ بزدل ہونا، سے دبکنا۔ جَبَّنَ ہ: دودھ جمانا، کا پنیر بنانا۔ ــــ ہ: پر بزدلی کا الزام لگانا، کو بزدل کہنا۔ تَجَبَّنَ: دہی جمانا، پنیر بنانا۔ جُبْن، جَبَانَۃ: بزدلی۔ جُبْن و جُبْنَۃ: پنیر۔ جَبَان جمع جُبَنَاء: بزدل، ڈرپوک، بے ہمت۔ جَبَّان: پنیر فروش۔ جَبِین جمع جُبُن و أَجْبِنَۃ و أَجْبُن: ماتھا، پیشانی، جبین، (عمارت کا) پیش، ماتھا یا چہرہ مہرہ، اگلا حصہ، سامنا، چہرہ۔ مِن جَبِینِی: میں اکیلا۔ علی جبین السماء: آسمان میں۔ جَبِینِیّ: سامنے کا، سامنے والا۔ أَجْبَن: زیادہ بزدل۔ جَبَّانَۃ جمع جَبَّانَات: قبرستان، گورستان، شہر خموشاں۔ تَجْبِین: پنیر سازی۔

جبہ: ۱- جَبَہَ ـجَبْھًا الرجلَ: کے پاس اچانک آ جانا، ــــ الشتاءُ القومَ: موسم سرما کا اس وقت آ جانا جب لوگ اس کے لئے تیار نہ ہوئے ہوں۔

۲-جَبَہَ ـجَبْھًا فلاناً: کو اس کی حاجت سے روک دینا۔

۳-جَبَہَ ـجَبْھًا ہ بالمکروہ: سے بری طرح پیش آنا، سختی سے پیش آنا۔ الجُبْھَۃ جمع جُبَاہ و جُبْھَات: ذلت۔ کہا جاتا ہے: لقیتُ منہ جبھۃً: مجھے اس سے ذلت ملی۔

۴-جَبَہَ ـجَبْھًا الرجلَ: کی پیشانی پر مارنا۔ جَبَّہَ ہ: کا سر جھکا دینا۔ الجَبَہ: پیشانی کی چوڑائی اور خوبصورتی۔ الجَبْھَۃ جمع جِبَاہ و جَبْھَات (ع ا): پیشانی۔ ــــ من الناس: لوگوں کی جماعت۔ الجبھۃ الحربیۃ: محاذ، محاذ جنگ۔ جبھۃُ القوم: قوم کا سردار۔ الأجْبَہ مونث جَبْھَاء: خوبصورت پیشانی والا، شیر۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۵۔ إجْتَبَهَ الماءَ وغيرَہ: پانی وغیرہ کو ناگوار سمجھنا۔

○ جَبَهَ ۔جَبْهًا ہ: کو ملنا، کے سامنے ہونا، کا سامنا کرنا، کے مقابل ہونا، کے مقابلہ پر اتر آنا۔جَابَهَ ہ/ہٗ: کا سامنا کرنا، کے روبرو ہونا، سے دوچار ہونا، کا مقابلہ کرنا، کے سامنے ڈٹ جانا، کی مخالفت کرنا، کے مقابلہ میں آنا، کی پروا نہ کرنا، کو خاطر میں نہ لانا، کا حکم نہ ماننا، کو چیلنج دینا، کی اطاعت نہ کرنا۔ ہ: کو بہادری دکھانا۔ ہ (کسی مسئلہ یا مشکل) کا سامنا کرنا۔جَبْهَة جمع جِبَاہ و جَبَهَات: پیشانی، ماتھا، پیش، اگلا حصہ، سامنا، چہرہ، محاذ جنگ۔مُجَابَهَة: سامنا کرنا، محاذ آرائی، مخالفت۔

جبا ا۔جَبَا ۔جَبْوًا و جَبْيًا و جِبْوَةً و جِبَاوَةً و جَبَى ۔جِبَايَةً الخراجَ: خراج جمع کرنا۔۔۔ الماءَ في الحوضِ: حوض میں پانی جمع کرنا۔الجَبَا جمع أجْبَاء و الجَابِيَة جمع جَوَابٍ: اونٹوں کے پانی پینے کا حوض، حوض جس میں اونٹوں کے لئے پانی جمع کیا جائے۔المَجْبَى: خراج۔

۲۔جَبَّى تَجْبِيَةً: ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا، سجدہ کے وقت ہاتھوں کو زمین پر رکھنا۔

۳۔أجْبَى زرعَهٗ: کھیتی پکنے سے پہلے ہی بیچ ڈالنا۔اسی سے ہے مَن أجْبَى فقد أربَى: جس نے کھیتی پکنے سے پہلے اس کو بیچا تو اس نے دینے سے زیادہ لیا۔(سودی لین دین کیا)۔

۴۔اِجْتَبَى ہ: کو پسند کرنا، چن لینا۔

۵۔الجَبَا جمع أجْبَاء: کہا جاتا ہے هذا لكَ جَبًا: یہ تمہارے لئے مفت۔

جبی: دیکھو جبا۔

○ جَبَى ۔جِبَايَةً ہ: (ٹیکس، محصولات) جمع کرنا، فراہم کرنا، لگانا، عائد کرنا، جبراً وصول کرنا۔جَبَّى: (نماز میں) سجدہ کرنا۔اِجْتَبَى ہ/ہٗ: کو چننا، منتخب کرنا۔جِبَايَة: (ٹیکس) فراہم کرنا، لگانا، وصول کرنا۔۔۔ جمع جِبَايَات: ٹیکس، محصول، خراج۔جِبَائِي: ٹیکس، ٹیکس کے متعلق، مالی، مالیاتی۔مُجْتَبًى جمع مَجَابٍ: ٹیکس، خراج۔جَابٍ جمع جُبَاة: ٹیکس کلکٹر، کلکٹر، ریونیو آفیسر، کنڈکٹر (بس وغیرہ کا)۔جَابِيَة جمع جَوَابٍ: تالاب، تسلا۔

جث: ا۔جَثَّ ۔جَثًّا و اِجْتَثَّ ہ: کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔المِجَثَّة و المِجْثَاث: گھاس کھودنے کی کھرپی۔الجَثِيث واحدہ الجَثِيثَة من النخل: کھجور کا پودہ، چھوٹے چھوٹے کھجور کے پودے۔

۲۔الجَثّ و الجُثّ: مری ہوئی ٹڈی یا شہد کی مکھی، کھجور کا چھلکا، شہد میں ملے ہوئے مکھی کے پر وغیرہ۔الجُثَّة جمع جُثَث: انسان کا بدن۔ہم کہتے ہیں هو كبيرُ الجُثَّة: وہ بھاری بھرکم ہے۔اس کا اکثر و بیشتر استعمال مردہ لاش کے لئے ہے۔ہم کہتے ہیں وَقَعَ جُثَّةً هامِدَةً: وہ بے جان لاش ہو کر گرا۔

○ جَثَّ ۔جَثًّا و اجْتَثَّ ہ: درخت وغیرہ کو جڑ سے اکھیڑنا (مجازاً بھی مستعمل ہے)۔جُثَّة جمع جُثَث و اَجْثَاث: جسم، لاش، لاشہ، جانوروں کی بے سری لاش، لوتھ۔مُجْتَثّ: جڑ سے اکھیڑا ہوا۔(مجازاً بھی)۔

جثل: ا۔جَثِلَ ۔و جَثُلَ ۔جَثَالَةً و جُثُولَةً الشجرُ والشَعرُ: درختوں یا بالوں کا بکثرت، گنجان اور سیاہ ہونا صفت جَثْل و جَثِيل۔

۲۔جَثَلَتْهُ ۔جَثْلاً الريحُ: کو ہوا کا اڑا لے جانا، بکھیر دینا۔الجُثَالَة: درخت کے بکھرے ہوئے پتے۔

۳۔الجَثْلَة جمع جَثْل: چیونٹی۔

۴۔اِجْثَألَّ الطيرُ: پرندہ کا پر جھاڑنا۔۔۔ النبتُ: پودے کا لمبا اور گنجان ہونا۔۔۔ الرجلُ: آدمی کا غضب میں آکر لڑائی کے لئے تیار ہو جانا۔

۵۔الجَثْلِيق و الجَاثَلِيق جمع جَثَالِقَة: لاٹ پادری (یونانی لفظ)۔

○ جَثْل: گھنے بال خصوصاً۔جَثْلِيق جمع جَثَالِقَة: امریکن چرچ کا اسقف اعظم۔

جثم: ا۔جَثَمَ ۔جَثْمًا و جُثُومًا الليلُ: آدھی رات ہونا۔الجَاثُوم و الجُثَام: کابوس۔

۲۔جَثَمَ ۔جَثْمًا و جُثُومًا الرجلُ او الطائرُ او الحيوانُ: آدمی، پرندہ یا جانور کا سینہ کو زمین سے لگانا۔صفت جَاثِم جمع جُثَّم۔الجُثَمَة والجَثَّامَة والجُثَم و الجُثُوم من الرجال: بہت بیٹھنے کا عادی، بہت سونے والا۔المَجْثَم جمع مَجَاثِم: بمعنی جثوم، بیٹھنے کی جگہ۔المَجْثِم: بیٹھنے کی جگہ۔الجُثْمان: جسم، شخص۔

○ جَثَمَ ۔جَثْمًا و جُثُومًا: (پرندہ کا) اترنا، بیٹھنا، زمین پر آرہنا، بسیرا لینا، دبکنا، جھکنا، سردی سے اکڑوں ہونا، اوندھا پٹ یا منہ کے بل گرنا یا لیٹنا، منہ نیچے کرکے لیٹنا۔۔۔ علی: پر چاروں طرف سے حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا، کو گھیر لینا، کو کچلنا۔جَثْمَة: بے حرکت بیٹھنا یا لیٹنا۔جُثَام و جَاثُوم: کابوس۔جُثْمَان جمع جُثْمَانَات: جسم، فانی ڈھانچہ۔جُثْمَانِي: جسمانی، بدنی، مادی، حیوانی۔جَاثِم جمع جُثَّم: گھٹنے اٹھا کر بیٹھا ہوا، بکھرا ہوا، بسیرا لئے ہوئے، چمٹا ہوا، منہ کے بل گرا ہوا۔

جثا: جَثَا ۔جُثُوًّا و جَثَى ۔جَثْيًا و جُثِيًّا: دو زانو بیٹھنا، پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا ہونا۔صفت جَاثٍ جمع جُثِيّ و جِثِيّ مؤنث جَاثِيَة۔أجْثَى ہ: کو زانو کے بل بٹھانا، انگلیوں کے بل کھڑا کرنا۔جَاثَى ہ: کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھنا۔تَجَاثَوا: باہم زانو کے بل بیٹھنا۔الجَثْوَة و الجُثْوَة و الجِثْوَة جمع جُثًى و جِثًى: اکٹھے پتھر، مٹی کا ڈھیر، قبر۔

جثی: دیکھو جثا (اوپر)، دو زانو ہونا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔گھٹنوں پر ٹیک لگانا، گھٹنا موڑنا، رکوع کرنا، رکوع میں جانا، گھٹنوں پر گرنا۔جُثُوّ: رکوع کی حالت۔جُثْوَة: پتھروں کا ڈھیر، ٹیلا، قبر کی ڈھیری، اونچی قبر۔مَجْثًى: گرجا کی نماز کا بوریا، جانماز، گدا جس پر نماز کے وقت گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں۔جَاثٍ: دوزانو، گھٹنوں کے بل احتراماً کھڑا ہوا۔الجَاثِي (فلک): ہرکولیس (Hercules)۔

جح: جَحْجَحَ عن الأمرِ: سے رک جانا، مڑ جانا۔۔۔ الشيءَ: کی تہہ کو پہنچنا، اس کی طرف تیزی کرنا۔الجَحْجَح و الجَحْجَاح جمع جَحَاجِح و جَحَاجِيح و جَحَاجِحَة: فیاضی کی طرف جلد سبقت کرنے والا سردار۔

جحد: ا۔جَحَدَ ۔جَحْدًا و جُحُودًا ہ: کا کفر کرنا، کو جھٹلانا۔۔۔ ہ حقَّهٗ و ۔ بحقِّه: جان بوجھ کر کسی کے حق کا انکار کرنا صفت جَاحِد۔لام الجُحُود: نحویوں کی اصطلاح میں جو کان ناقصہ کی نفی کے بعد تاکید کے لئے زائد آتا ہے، جیسے ما كان ربُّكَ لِيَتُوبَ علی الظالمين: خداتعالیٰ کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ ظالموں کی مغفرت کرے۔

۲۔جَحِدَ ۔جَحَدًا الشيءُ: کم ہونا۔۔۔ النبتُ: پودے کا دراز نہ ہونا یا کم ہونا اور دراز نہ ہونا۔۔۔ الرجلُ: بے خیر ہونا صفت جُحُد و جَحِد و أجْحَد: (کہا جاتا ہے عامٌ جَحِدٌ: کم بارشوں کا سال)۔۔۔ تِ الارضُ: زمین کا خشک ہونا، بے برکت ہونا۔کہا جاتا ہے ارضٌ جَحِدَةٌ: خشک بے برکت زمین۔

۳۔جَحْدَرَہ: کو پچھاڑنا، لڑھکانا۔تَجَحْدَرَ الطائرُ: پر پھڑپھڑا کر پرندے کا اڑنا۔الجَحْدَر: کوتاہ قد۔

۴۔جَحْدَلَ ہ: کو پچھاڑنا۔

○ جَحَدَ ۔جَحْدًا و جُحُودًا ہ: کا انکار کرنا، کی نفی کرنا، کے وجود سے انکار کرنا، کی تردید کرنا، کا ابطال کرنا، سے بے تعلقی یا لاعلمی ظاہر کرنا، کو تسلیم نہ کرنا، کو جھٹلانا، کو قبول نہ کرنا، سے دست بردار ہونا، کو نا منظور

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا، رد کرنا، چھوڑ دینا، ناجائز قرار دینا، (عقیدہ) کو چھوڑ دینا، سے قطع تعلق کرنا، کی جھوٹی قسم کھانا، کا واسطہ دلانا۔ ـــ ہ ہ (کے حق) کو تسلیم نہ کرنا۔ جَحَدَ جَمِیلَہ کا ناشکرا ہونا، کا احسان ناشناس ہونا۔ جَحْد: رد، تردید، تکذیب، انکار، تسلیم کرنے سے انکار، قطع تعلق، استرداد، نامنظوری، ترک، کفر، بے اعتادی (مذہبی)۔ جُحُود رد، تردید، تکذیب، انکار، ٹال مٹول، لیت ولعل، حیلہ بہانہ، عذر، بچنا، ادھر ادھر ہٹنا، حیلے بہانے کرنا، (اخلاقی ذمہ داری سے) سے گریز، پہلوتہی یا کنی کترانا، ناشکری، ناشکرگزاری، احسان فراموشی، احسان ناشناسی، ناسپاسی، قطع تعلق، استرداد، نامنظوری، ترک، کفر، مذہبی بداعتادی۔ جاحد تکذیب کرنے والا، تغلیط کرنے والا، رد کرنے والا، نامنظور کرنے والا، انکار کرنے والا، تسلیم نہ کرنے والا، قبول کرنے سے انکار کرنے والا، یقین نہ کرنے والا، باور نہ کرنے والا، لامذہب، کافر، بے دین، ملحد۔

جحر: ۱۔جَحَرَ ـجَحْراً و تَجَحَّر و اِنْجَحَر الضَّبُّ او السبعُ: گوہ یا درندے کا سوراخ یا بھٹ میں داخل ہونا۔ جَحَرَ و أَجْحَرَ السبعَ: درندے کو بھٹ میں داخل ہونے پر مجبور کرنا۔ ـ ہ إلی کذا: کو پر مجبور کرنا۔ اِجْتَحَر سوراخ بنانا، بل بنانا۔ الجُحْر جمع أَجْحار و جِحَرَة و أَجْحِرَة: سوراخ، بل، بھٹ۔ الجَحْر گہرا گڑھا۔ المَجْحَر جمع مَجَاحِر: چھپنے کی جگہ، پناہ کی جگہ۔

۲۔جَحَرَ ـجُحُوراً تِ العینُ: آنکھ کا اندر کو دھنسنا۔ تَجَحَّرَتِ العینُ آنکھ اندر کو دھنس جانا۔ عینٌ جَحْرَاء: گڑھے میں بیٹھی ہوئی آنکھ۔

۳۔جَحَرَ ـجُحُوراً فلانٌ: تاخیر کرنا، دیر کرنا، پیچھے رہنا۔ ـ الخیرُ: بھلائی کا پیچھے رہنا، آپ کہتے ہیں جَحَرَ الخیرُ عنّا: بھلائی ہم تک نہیں پہنچی۔ ـ ہ: کو پریشان کرنا۔ أَجْحَرَتِ السماءُ: آسمان کا بارش نہ برسانا۔ ـ القومُ: قوم کا قحط سالی اور سختی میں پڑ جانا۔ ـ ہ: کو پریشان کرنا۔ الجَاحِر: پیچھے رہ جانے والا۔ الجَواحِر: (اپنے گلہ یا ریوڑ سے) پیچھے رہ جانے والے جانور۔ الجَحْرۃ و الجَحَرۃ: خشک سال۔

○ اِنجحر: (جانور کا) سوراخ (بل) یا بھٹ میں چھپنا۔ جُحْر جمع جُحَار و جُحور: سوراخ، بھٹ، بل، باڑا (جانوروں کا)۔

جحس: جَحَسَ ـجَحْسًا الجلدَ: چمڑا چھیلنا، کھرچنا۔ ـ عن نفسه و عن غیرہ: اپنا اور غیر کا دفاع کرنا، کو اپنے اور غیر سے ہٹانا، دفع کرنا۔

جحش: جَحَش ـجَحْشًا الجلدَ: چمڑا چھیلنا، کھرچنا۔ جاحش عنه: کا دفاع کرنا۔ ـ ہ: سے مزاحم ہونا، سے لڑائی کرنا۔ الجَحْش جمع جِحَاش و جِحشان و جِحَشَة مونث جَحْشَة (ح): گدھے کا بچہ، بچھیرا۔ جمع جُحُوش و جُحُوشة: گھوڑا، قینچی دار گھوڑی جس پر تختہ رکھا جاتا ہے۔ (عامی زبان میں)۔ الجَحشة: ہاتھ پر لپیٹ کر کاتی جانے والی اون۔ الجَحُوش: ننھا بچہ۔

○ جحشة: نوجوان گدھی۔

جحظ جَحَظَ ـجُحُوظًا عینهُ: کی آنکھ کا ابھرے ڈھیلے والی ہونا۔ رجلٌ جَاحِظ العینین: ابھری ہوئی آنکھوں والا مرد۔ جَحَّظَ إلیه: کو گھورنا، کی طرف ٹکٹکی لگانا۔ الجاحظتان: دونوں آنکھوں کے ڈھیلے۔

○ جَحَظَ ـجُحُوظًا: آنکھ کے ڈھیلے کا ابھرنا، باہر کو نکلنا۔ جُحُوظُ العین: آنکھ کے ڈھیلے کا غیر معمولی طور پر باہر کو نکلا ہوا ہونا۔

جحف: ۱۔جَحَفَ ـجَحْفًا ہ: کو چھیلنا، بہا لیجانا۔ ـ له الطعامَ: کے لئے کھانا نکالنا۔ جُحِفَ الرجلُ: آدمی کا ہیضہ میں مبتلا ہونا۔ أَجْحَفَ السیلُ به: کو سیلاب کا بہا لیجانا۔ ـ الدهرُ بالناس: زمانہ کا لوگوں کو جڑ سے مٹانا، ہلاک کرنا۔ اجتحف السیل الوادیَ: سیلاب کا وادی کو کھود کر بہا لیجانا۔ ـ ماءَ البئرِ: کنویں کا تمام پانی نکال کر خشک کر دینا۔ ـ ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا، ہلاک کرنا۔ الجَحْفَة و الجُحْفَة: حوض کے کناروں پر بچا ہوا پانی۔ الجُحاف: ہیضہ کے اسہال۔ (مَجْحُوف: ہیضہ میں مبتلا)۔ الجُحاف: سب کچھ بہا لیجانے والا۔ ہم کہتے ہیں: موتٌ جُحاف و سیل جُحاف: سب کچھ لیجانے والی موت، سب کچھ بہا لیجانے والا سیلاب۔ المُجْحِفَة: مصیبت۔

۲۔جَحَفَ ـجَحْفًا ہ بِرِجْلِه: کو لات مارنا۔

۳۔جَحَفَ ـجَحْفًا معه و له علی غیرہ: مائل ہونا، جھکنا۔ أَجْحَفَ فلانٌ بعبدہ: اپنے غلام کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کام دینا۔ اِجْتَحَفَ ہ: کو لوٹنا۔ الإِجْحَاف: ناانصافی، ظلم، تعصب، میلان خاطر۔ جمع اجحافات: کہتے ہیں هذا إجحاف بحقه: یہ اس کے حق سے ناانصافی ہے۔ مُجْحِفٌ بِحَقِّهِ: کے حق کو سخت نقصان دہ۔

۴۔ marfat.com

کرنا۔ تَجَاحَفوا: لاٹھیوں اور تلواروں سے لڑنا۔ ـ بالکُرَةِ: گیند کو بلے سے ایک دوسرے سے چھیننا۔ الجحاف: لڑائی، جنگ۔

۵۔جَحْفَلَ جحفلَةً ہ: کو پچھاڑنا، پھینکنا، دھمکانا، تنبیہ کرنا۔ تَجَحْفَلوا: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الجَحْفَل جمع جَحَافِل: لشکر جرار۔ ـ من الرجال: بڑی قدر والا آدمی، بڑے مرتبے اور درجے والا آدمی۔ الجَحْفَلة: کھر والے جانور کا ہونٹ۔

○ جَحَفَ جَحْفًا ہ: کی چھال اتارنا، کو کھرچ کر اتارنا، یا صاف کرنا، چھیلنا، چھیل کر ہموار یا صاف کرنا، کو بہا لیجانا۔ ـــ مع: کے لئے تعصب رکھنا، کی حمایت کرنا۔ أَجْحَفَ ب: کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، زخمی کرنا، (مقدمہ، دعویٰ) کو نقصان پہنچانا، (کسی پر) اثر ڈالنا، اثر انداز ہونا، کو تباہ کرنا، برباد کرنا، (کسی پر) ظلم کرنا۔ مُجْحِف: بے انصاف، غیر منصفانہ، جانبدار، غیر منصف، غیر منصفانہ، متعصب، متعصبانہ۔

○ جَحْفَل جمع جَحَافِل: انبوہ، ازدحام، بہت بڑی تعداد، لشکر جرار، کور (ڈویژن فوج)، ممتاز آدمی۔

جحل: ۱۔جَحَلَ ـجَحْلاً و جَحَّلَ ہ: کو پچھاڑنا۔

۲۔الجَحْل جمع جُحُول و جِحْلان: گوہ کا بچہ۔ نر شہد کی مکھی، بھونرا، گرگٹ۔ ـ جمع جِحال: بڑی مشک۔ کہا جاتا ہے رجلٌ جَحْلٌ: کشادہ پیشانی والا موٹا آدمی۔ الجُحال: زہر۔ الجَیْحَل: پہاڑ، بڑی چٹان، ہر بڑی چیز۔

جحم: ۱۔جَحَمَ ـجَحْمًا النارَ: آگ بھڑکانا۔ جَحِمَ ـجَحَمًا و جَحْماً جَحُمَ ـجُحُومَات النارُ: آگ کا جلنا۔ أَجْحَمَتُ النارُ: آگ کا تیز بھڑکنا۔ تَجَحَّمَ: حرص و بخل سے جلنا، تنگ ہونا۔ الجَاحِم (فا): دہکتی ہوئی چنگاری۔ ـ من الحرب: سخت جنگ، گھمسان کی لڑائی۔ کہا جاتا ہے: نارٌ جَاحِمَةٌ: تیز آگ۔ الجحیم: گڑھے میں سخت دہکتی ہوئی آگ، سخت گرم جگہ، جہنم۔ جُحْمَة جمع جُحَمُ النار: آگ کی بھڑک۔

۲۔جَحَمَ ـجَحْمًا العینَ: آنکھ کھولنا۔ جَحَّمَ ہ بِعینه: کو گھورنا، تیز نگاہ سے دیکھنا۔ الجاحِمة: ٹکٹکی لگانے والی آنکھ۔ الجُحَام (طب): آنکھوں کا ورم۔ الأَجْحَمَ مونث جَحْمَاء جمع جُحْم و جُحْم و جَحْمَی: سرخ آنکھوں والا، سوجی ہوئی آنکھوں والا۔

۳۔جَحَمَ ـجَحْمًا ہ عن الأمر: کو کسی بات سے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

روکنا، باز رکھنا۔أَجْحَمَ عن الامر: سے رکنا باز رہنا۔

۴-الجَحْمَرِش جمع جَحَامِر۔ تصغیر جُحَيْمِر: بہت بوڑھی عورت، بدصورت عورت، موٹا خرگوش۔

○ جَحِيم (مونث، نیز مذکر): آگ، جہنم کی آگ، جہنم۔جَحِيمِيّ: جہنمی، دوزخی، جہنم، دوزخ کا۔

جحن: ۱-جَحَنَ ـَجَحْنًا و أَجْحَنَ و جَحَّنَ: غربت یا کنجوسی کے سبب بال بچوں کو روزی کی تکلیف میں ڈالنا۔

۲-جَحِنَ ـَجَحَنًا الصبيُّ: خوراک کی خرابی کی وجہ سے بچہ کا کمزور ہونا صفت جَحِنٌ۔ أَجْحَنَه: کو بری خوراک دینا۔الجَحِن: دیر میں جوان ہونے والا۔۔ من النبات: کمزور اور چھوٹا پودا۔

جحا: ۱-جَحَا ـُجَحْوًا: چلنا۔الجَحْوَة: ایک قدم۔

۲-جَحَا ـُجَحْوًا بالمكان: کسی جگہ رہنا۔

۳-جَحَا ـُجَحْوًا فلانًا و الشيءَ: کسی کی بیخ کنی کرنا، کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا۔اِجْتَحَى اجتحاءً ہ (اجتاحَهُ کی طرح): کو جڑ سے اکھیڑنا، کی بیخ کنی کرنا۔

جخ: جَخَّ ـِجَخًّا: لیٹنا، بدن کو ڈھیلا چھوڑ دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ایسے کپڑے وغیرہ استعمال کرنا جن پر فخر کرے، فاخرہ لباس وغیرہ استعمال کرنا۔

اسم الجَخّة (عام زبان میں) ۔۔ برِجْلِهِ: پاؤں سے خاک اڑانا۔

○ جَخَّ: حکم چلانا، دون کی لینا، شیخی بگھارنا، بننا، ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، اچھی پوشاک پہننا، اچھے کپڑے پہننا (کسی حد تک طنز آمیز)۔جَخَّاخ: شیخی بگھارنے والا، ڈینگیں مارنے والا، بڑ ہانکنے والا، شیخی خورہ۔

جخر: جَخَرَ ـَجَخْرًا و جَخَّرَ البئرَ: کنویں کو کشادہ کرنا، وسیع کرنا۔جَخِرَ ـَجَخَرًا جوفُ البئر: کنویں کا کشادہ ہونا۔تَجَخَّرَ الحوضُ: حوض کا پانی خشک ہو کر اس کی مٹی کا ترخ جانا۔الجَخِر: بسیار خور، بزدل۔

جخف: جَخَفَ ـِو جَخِفَ ـَجَخْفًا و جَخَفًا و جَخِيفًا: اپنی حد سے زیادہ فخر کرنا صفت: جَخَّاف۔
الجَخِيف: متکبر۔نفس وروح (آپ کہتے ہیں: وقع ذلك في جَخِيفي: یہ بات میرے دل میں آئی)۔انسان کے پیٹ کی آواز، بھاری لشکر، بہت۔

جخا: جَخَا ـُجَخْوًا الكوزَ: کوزہ کو اوندھا کرنا۔
جَخَّى و تجخَّى الكوزُ: کوزے کی چیزوں کا اوندھا ہونا، جھکنا۔۔ الشيخُ: بوڑھے کا کبڑا ہونا۔

جَخَّى الليلُ: رات کا گذر جانا۔

جد: ۱-جَدَّ ـُجَدًّا الشيءَ: کو کاٹنا۔الجُدّ: ہر چیز کا کنارہ، چیز کو کاٹنے کی جگہ، ساحل سمندر۔الجَدّ: دریا کا کنارہ۔الجُدَّة: دریا کا کنارہ۔الجَدِيد و المَجْدُود: کٹا ہوا۔الجَدَاد و الجِدَاد: کھجور توڑنا۔جُدَادَة النخلِ وغيرِه: کھجور وغیرہ کا جڑ سے اکھڑ ہوا درخت۔

۲-جَدَّ ـِجِدًّا في الامر: کام میں جلدی کرنا۔

۳-جَدَّ ـِجِدًّا به الامرُ: سے کام کا سخت ہونا۔جَدًّا في اعين القوم: قوم کی نظروں میں بڑا ہونا۔

۴-جَدَّ ـِجِدًّا: کوشش کرنا۔۔ في الامر: ثابت کرنا، اہتمام کرنا۔اَجَدَّ في الامر: کسی معاملہ میں سنجیدگی اختیار کرنا، کوشش کرنا۔۔ الامرَ: کسی امر کی خوب تحقیق کرنا، کو مضبوط کرنا۔الجِدّ (مص): کوشش، سنجیدگی، پوری تحقیق کو پہنچا ہوا۔کہا جاتا ہے: عذابٌ جِدٌّ: سخت ترین عذاب۔فلانٌ عالمٌ جِدُّ عالِمٍ: فلاں شخص چوٹی کا عالم ہے۔عظيمٌ جِدًّا: بہت بڑی عظمت رکھنے والا۔(جدًّا کا نصب مصدریت کی وجہ سے ہے)۔الجادّ: محنتی، سنجیدہ۔الجادَّة جمع جَوَادّ: جاد کا مونث۔

۵-جَدَّ ـَجَدًّا و جُدَّ: صاحب نصیب ہونا صفت: مَجْدُود: کہا جاتا ہے: جُدِدْتَ يا فلانُ: اے فلاں تو خوش قسمت ہو گیا۔الجَدّ: خوش قسمتی (کہا جاتا ہے: فلان ذو جَدٍّ في كذا: فلاں اس معاملہ میں صاحب نصیب ہے)۔۔ و الجُدِّي: بڑی قسمت والا۔الجَدّ: خوش قسمتی، بزرگی، عظمت، رزق۔کہا جاتا ہے: عَثَرَ جَدُّه او تَعِسَ جَدُّه: وہ ٹوٹے میں رہا یا ہلاک ہو گیا۔الجَدِيد و المَجْدُود: نصیبہ ور۔

۶-جَدَّ ـِجِدَّةً الثوبُ: کپڑے کا نیا ہونا۔جَدَّدَ و اَجَدَّ الشيءَ: کو نیا کرنا۔تَجَدَّدَ: نیا ہو جانا۔اَجَدَّ ثوبًا: نیا کپڑا پہننا۔اِسْتَجَدَّ الشيءُ: نیا ہونا۔۔ الشيءَ: کو نیا کرنا یا نیا پانا۔۔ الثوبَ: نیا کپڑا پہننا۔جِدَّةُ الثوب: کپڑے کا نیا ہونا۔الجَدِيد مونث جَدِيد و جَدِيدَة جمع جُدُد: نیا۔الجديدان و الاَجَدَّان: رات اور دن۔(ان کا استعمال تثنیہ کی شکل میں ہے۔ تنہا دن یا رات کے لئے جدید یا اجد نہیں کہہ سکتے) اس سے ہے: لا افعله ما اختلف الجديدان: جب تک دن رات ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ [illegible]
الاَكْسِيَة: [illegible]

۷-جَدَّ ـِجَدًّا الثديُ او الضرعُ: پستان یا تھن کا دودھ خشک ہو جانا۔صفت جادّ: ایسی اونٹنی کی صفت: جَدَّاء: کہا جاتا ہے سَنَةٌ جَدَّاء: قحط کا سال۔

۸-اَجَدَّ الطريقُ: راستہ کا سخت اور ہموار ہونا۔۔ الرجلُ: سخت اور ہموار راستہ پر چلنا۔الجَدَد جمع أَجْدَاد: سخت اور ہموار زمین (اسی سے ضرب المثل ہے: مَن سلك الجَدَدَ اَمِنَ العِثار: جو سخت اور ہموار زمین پر چلتا ہے وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے)۔
الجَادَّة جمع جَوَادّ: سڑک کا بیچ، شاہراہ جس کے دونوں جانب درخت ہوں۔

۹-جَادَّ مُجَادَّةً ہ في الامر: کے خلاف کسی معاملہ پر مقدمہ دائر کرنا، دعویٰ کرنا۔

۱۰-الجُدّ: بہت پانی والا کنواں، کم پانی والا کنواں (ضد)، صحرا کے کنارہ پر تھوڑا سا پانی۔الجَدّ جمع اَجْدَاد و جُدُود و جُدُودَة م جَدَّة جمع جَدَّات: دادا، نانا۔
الجُدَّة جمع جُدَد: نشان، طریقہ۔کہا جاتا ہے: رَكِبَ جُدَّةَ الامر او جُدَّةً من الامر: کسی معاملہ میں رائے رکھنا۔الجَدَد جمع اَجْدَاد: باریک ڈھلواں ریت۔الجُدَّة: کتے کے گلے کا پٹہ، کپڑے کا ٹکڑا۔
الجُدَيْد مونث جُدَيد و جُدَيْدَة جمع جُدُد: ایک قسم کا پرانا سکہ جو ۹ پاروں کے برابر تھا۔الجُدَّاد: آپس میں الجھے اور گتھے ہوئے ڈورے یا شاخیں۔

۱۱-الجَدْجَد جمع جَدَاجِد: سخت اور ہموار زمین۔الجُدْجُد جمع جَدَاجِد (ج): جھینگر۔

○ جَدَّ ـِجَدًّا: نیا ہونا، نئی صورت حال ہونا، حال ہی میں واقع ہوا ہونا، حال ہی میں حقیقت بن چکا ہونا (حالات۔لاگتوں کا) نئے عامل کے طور پر شامل ہونا، اچانک طور پر آ پڑنا، داخل ہونا۔(سٹیج پر) پہلی بار نمودار ہونا، تشویشناک، سنگین ہونا، یا ہو جانا، اہم ہونا، معنی خیز ہونا، وزنی یا بھاری بھرکم ہونا۔۔ في: کو سنجیدگی سے لینا، کے لئے سنجیدگی سے سخت کوشش یا جدوجہد کرنا، کو کرنے کے لئے خاص احتیاط کرنا، تکلیف اٹھانا، میں ہر کوشش کرنا، کے بارے میں سنجیدہ ہونا، واقعی ہونا، کرنے کا ارادہ ہونا، تیز قدمی کرنا۔
جَدَّدَ ہ: کو نیا بنا دینا، کی تجدید کرنا، کو دوبارہ کرنا، کو نئے تقاضوں کے مطابق بنانا، مرمت سے بالکل پہلا سا بنا دینا یا ٹھیک ٹھاک کرنا، کو دوبارہ چکانا۔جَدَّدَ: نئی بات کرنا، نیا خیال رائج کرنا، مصلح ہونا، کی چیز کو نمایاں طور پر نیا یا انوکھا کر کے لانا، نیا بنانا۔۔ ہ: کو دوبارہ جوان بنانا، کا اعادہ شباب کرنا، کی روح کو بیدار کرنا، کو نئی زندگی عطا کرنا، پھر سے پیدا کرنا، کو مزید دلکش بنانا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زیادہ خوشگوار بنانا، (پرمٹ وغیرہ کی) تجدید کرنا، کی مدت بڑھانا، کسی چیز کو از سر نو شروع کرنا، دہرانا، میں نیا آغاز کرنا۔ جَدَّدَ حظَّهُ: اپنی قسمت کو ایک بار پھر آزمانا۔ اَجَدَّ: سخت کوشش کرنا، جدو جہد کرنا، کوشش کرنا، بڑی محنت اور کوشش سے کوئی کام کرنا۔ فی: کو سنجیدگی، محنت اور تندہی سے کرنا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، پر تلا ہوا ہونا، تیز قدمی کرنا۔ ہ: کی تجدید کرنا، کو نیا بنانا۔ تَجَدَّدَ: نیا ہو جانا، کی تجدید ہو جانا، پھر سے پیدا ہونا۔ اِسْتَجَدَّ: نیا ہونا، نئے عامل کے طور پر شامل یا داخل ہونا، نئے انداز سے وجود میں آنا۔ ہ: کو نیا بنانا، کی تجدید کرنا۔ جَدّ جمع جُدُود: خوش قسمتی، خوش نصیب۔ جِدّ: سنجیدگی، سرگرمی، مشقت، محنت، تندہی، جاں فشانی، شوق۔ جِدًّا: بہت، زیادہ۔ جِدٍّ مِن جِدٍّ: سنجیدگی سے، متانت سے۔ جِدُّ باهِظٍ: بہت گراں (قیمت)۔ جِدُّ عظیم: بہت بڑا۔ یختلفون جِدَّ الاختلاف: وہ بہت اختلاف کرتے ہیں۔ وَقَفَ علی ساقِ الجِدّ: تندہی سے کوئی کام کرنا، میں بڑی محنت اور کوشش کرنا، کے لئے ہر کوشش کر ڈالنا۔ جِدِّی: سنگین، سنجیدہ، درپے، سچ مچ کوشاں۔ جِدِّیًا: دل سے، واقعی، سنجیدگی سے، متانت سے۔ جِدِّیَة: سنجیدگی، سرگرمی، (صورت حال کی) تشویشناکی، شدت، اہمیت۔ جِدَّة: نیا ہونا، تازگی، نیا پن، انوکھا پن، نیا ہونا، موجودہ زمانہ کا ہونا، جدت پسندی، نو پسندی۔ جُدَّة: جدہ: (بحر احمر پر مغربی سعودی عرب کی بندرگاہ)۔ جَدِید جمع جُدُد و جُدَد: نیا، حالیہ، حال، قریب زمانہ کا، تجدید کیا ہوا، عصر حاضر کا، انوکھا، بے مثال، جس کی کوئی نظیر موجود نہ ہو۔ الجدیدان: دن اور رات۔ مِن جدید: نئے سرے سے، از سر نو۔ جدید لَنْج: بالکل نیا۔ اَجَدُّ: زیادہ سنجیدہ، زیادہ سنگین، زیادہ مشاق، زیادہ سرگرم، زیادہ نیا، زیادہ حال کا، زیادہ قریب زمانہ کا۔ تَجْدِید: تجدید، (پرمٹ وغیرہ کی) تجدید، نئی چیز کی تخلیق، ایجاد، نئی پیشکش، نئی پیش کش (تھیٹر)، تنظیم نو، اصلاح، نئے زمانہ کے مطابق بنانا، درستی، ترمیم، تجدید، بحالی، واگزاشت، احیاء، نئے نمونے پر بنانا، از سر نو بنانا، نئی طرز پر تشکیل کرنا، مرمت از سر نو درست کرنا، چالو حالت میں لانا، دوبارہ صیقل کرنا، چمکانا۔ تجدید شباب، اعادۂ شباب، نئی زندگی، نیا جنم۔ جمع تجدیدات: ایجادات، اختراعات، جدتیں، بدعتیں، نئی کامیابیاں، نئے کارہائے نمایاں۔ تَجَدُّد: تجدید، نئی زندگی، نیا جنم، احیاء، اعادہ، حیات نو، دوبارہ رواج پانا۔ جَادّ: جوشیلا، تمنائی، آرزومند، دل سے، واقعی، سنجیدہ۔ جَادَّة جمع جادّات و جَوَادّ: بڑی سڑک، سڑک۔ مَجْدُود: خوش قسمت، خوش نصیب۔ مُجَدِّد: تجدید کرنے والا، نئی راہ نکالنے والا، ایجاد کرنے والا، مصلح۔ مُجَدَّد: تجدید کیا ہوا، مدت بڑھایا ہوا، نئے نمونے پر مرتب شدہ، مرمت کیا ہوا، نئے سرے سے تشکیل دیا ہوا، از سر نو درست کیا ہوا، بحال کیا ہوا، اعادۂ شباب کیا ہوا، دوبارہ پیدا کیا ہوا، نیا جنم دیا ہوا، پستی سے ابھارا ہوا، نیا، حالیہ، حال کا، قریب زمانہ کا، جوان۔ مُسْتَجِدّ: نیا، حالیہ، حال کا، ابتدائی، ابتدائی منزل میں۔

جدب: ا۔ جَدَبَ جَدْبًا و جَدُبَ جُدُوبَةً و تَجَدَّبَ المکانُ: کسی جگہ کا بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جانا۔ صفت جَدْب و أَجْدَب و جَدِیب و جُدُوب و مَجْدُوب۔ اَجْدَبَ المکانُ: بارش نہ ہونے کی وجہ سے کسی جگہ کی زمین کا خشک ہو جانا۔ ـــ القومُ: قوم کا قحط زدہ ہونا۔ ـــ الارضَ: زمین کو خشک پانا۔ ـــ فلانًا: کسی شخص کے پاس جا کر مہمان داری نہ پانا۔ الجَدْب (مص) مونث جَدْبَة جمع جُدُوب: قحط سالی۔ کہا جاتا ہے: مکانٌ جَدْبٌ: قحط زدہ مقام۔ أَرَضُون جُدُوبٌ و أَرَضُون جَدْبٌ: قحط زدہ زمینیں۔ الجَدُوب و الجَدِیب: قحط زدہ۔ الجَدْباء من الأراضی: قحط زدہ زمین۔ المِجْداب جمع مَجَادِیب (یا محذوف کے ساتھ) مِن الأراضی: بنجر زمین۔ الاجادِب: زمینیں جن میں کوئی روئیدگی نہ ہو۔ المَجْدُوب: قحط زدہ جگہ۔

۲۔ جَدَبَ جَدْبًا فلانًا: پر عیب لگانا۔ تَجَدَّبَ: عیب دار ہونا۔ الجَدْب: عیب۔

۳۔ جَدَّبَ ہ: کو کمزور کرنا۔

○ جَدُبَ جُدُوبَةً: مٹی کا خشک، بے آب و گیاہ یا بنجر ہونا یا ہو جانا۔ اَجْدَبَ: اساک باراں، غربت یا کال جھیلنا، برداشت کرنا، بنجر ہونا، کچھ نہ بننا، ناکام رہنا، مکمل طور پر جل جانا، ناکامی پر منتج ہونا، کوئی قیمتی چیز پیچھے نہ چھوڑنا، بے اثر رہنا، اثر نہ کرنا، ٹائیں ٹائیں فش ہونا۔ جَدْب: قحط سالی، خشک سالی، اساک باران، بنجر پن، بانجھ پن، غیر زرخیزی، بنجر، بانجھ، کلر، شور۔ جَدِیب و أَجْدَب مونث جَدْباء: بنجر، بانجھ۔ مُجْدِب: بنجر، بانجھ، خشک، بے برگ و گیاہ، سنسان، ویران، غیر آباد، غیر پیداواری، جو کچھ پیدا نہ کرے، غیر [illegible]

جدث: اِجْتَدَثَ: قبر بنانا۔ الجَدَث جمع أَجْدَاث و أَجْدُث: قبر، گور، تربت، مزار، مقبرہ گنبد۔

○ جُدْجُد جمع جَدَاجِد: جھینگر۔

جدح: ا۔ جَدَحَ جَدْحًا و أَجْدَحَ و اجْتَدَحَ السویقَ: ستو گھولنا۔ کہتے ہیں جَدَحَ جُوَیْنٌ مِن سویقِ غیرِه: جوین نے دوسرے کے ستو گھولے۔ اردو میں اس ضرب المثل کی ہم معنی ضرب المثل یہ ہے: حلوائی کی دوکان اور دادا جی کی فاتحہ۔ یہ ضرب المثل ایسے شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو دوسروں کے مال سے سخاوت کرتا ہو۔ جَدَّحَ ہ: کو ملانا، خلط ملط کرنا۔ المِجْدَح: ستو وغیرہ گھولنے کا آلہ۔

۲۔ المِجْدَحَ (فلك): ستارہ۔ مَجَادِیحُ السماء: نچھتر۔ اس کا واحد مِجدح ہے۔ کہا جاتا ہے: أرسلت السماءُ مجادیحَ الغیث: آسمان نے بارش کے نچھتروں کو آزاد چھوڑ دیا۔ المِجْدَاح: ساحل سمندر۔

جدر: ا۔ جَدُرَ جَدَارَةً بكذا: کے لائق و اہل ہونا۔ صفت: جدیر۔ جَدَّرَ تَجْدِیرًا ہ: کو اہل و لائق بنانا۔ جَدِیر جمع جَدِیرُون و جُدَراء مونث جَدِیرَة جمع جَدِیرات و جدائر بكذا او لكذا: کے لائق، کے اہل۔ الجَدِر جمع جَدِرُون بالشيء وله: کے لائق، کے مناسب۔ المَجْدَرَةُ: لائق، اہل۔ کہا جاتا ہے انه مَجْدَرَةٌ لأن یفعل كذا: وہ ایسا کرنے کا اہل ہے۔ (اس میں مذکر، مونث، مفرد اور جمع یکساں ہیں) المَجْدُور: لائق، اہل۔ کہا جاتا ہے انه مَجْدُورٌ بأن یفعل كذا: وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔

۲۔ جَدَرَ جَدْرًا الرجلُ: دیوار کی اوٹ میں ہو جانا۔ ـــ الجدارَ: کو دیواروں سے گھیرنا۔ جَدَّرَ و اجْتَدَرَ الحائطَ: دیوار بنانا اور اس پر پلستر کرنا۔ الجَدْر جمع جُدْران و الجدار جمع جُدُر و جُدْر: دیوار۔ الجُدرانِیَّة جمع جُدْرانِیّات: (ف ج) چھوٹے نقوش اور تصویروں والے قالین جو دیواروں پر لٹکائے جاتے ہیں۔

۳۔ جَدَرَ جَدْرًا و جُدِرَ و جُدِّرَ: کو چیچک نکلنا، صفت مَجْدُور و مَجَدَّر۔ جَدَرَ و جَدُرَ جَدَارَةً و جَدَّرَ و أَجْدَرَ النبتُ و الشجرُ: پودے اور درخت پھوٹنا، کونپلیں نکالنا (مجازی معنی)۔ الجُدَرِیّ و الجَدَرِیّ (طب): چیچک۔ الجُدَر و الجَدَر: واحد جُدَرَة و جَدَرَة: پھنسیاں، جلد پر چوٹ یا زخم کے نشان۔ المُجَدَّر مونث المُجَدَّرَة (طب): چیچک میں مبتلا۔ (ط) مسور اور چاول یا ماش

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اور چاول سے پکایا ہوا کھانا۔ المَجْدُور (طب): چیچک میں مبتلا۔ اَرضٌ مَجْدَرَةٌ: بہت چیچک والی زمین، وہ ملک جہاں چیچک کی وبا پھیلی ہوئی ہو۔

۲۔ الجَدْر و الجَدَر جمع جُدُور واحد جَدْرَة و جَدَرَة: ایک قسم کی ریتلی نبات۔ المَجْدُور: کم گوشت والا۔ المِجْدار: پرندوں اور جنگلی جانوروں کو ڈرانے کے لئے کھیتوں میں نصب ڈراؤنا پتلا۔ اسے فَزّاعَة بھی کہتے ہیں۔

۞ جَدُرَ ـ جَدارَةً ب: کے لئے موزوں و مناسب ہونا، کو پھبنا، کے شایانِ شان ہونا، کو زیب دینا، کے لائق ہونا، کے قابل ہونا، کا مستحق یا حق دار ہونا، سزاوار ہونا۔ یَجْدُرُ ذِکْرُہ و یَجْدُرُ بالذکر: قابل ذکر۔ جَدِیر جمع جَدِیرُون و جُدَراء ب: کا مستحق، کے لئے موزوں، مناسب، برجستہ، برمحل، کے مطابق۔ جدیرٌ بالذکر: قابل ذکر۔ اَجْدَر: زیادہ حقدار، زیادہ مستحق، زیادہ مناسب، زیادہ موزوں، زیادہ برجستہ، زیادہ برمحل، زیادہ شایان۔ جَدارَة: اہلیت، قابلیت، موزونیت، صلاحیت، مناسبت، لیاقت، استعداد۔ جَدْر و جِدار جمع جُدُر و جُدْران: دیوار۔ جِداری: دیوار کا، دیواری۔ جُدِرَ و جُدِّرَ: ۔۔۔ میں مبتلا ہونا، کو چیچک ہونا۔ جُدَرِیّ: چیچک۔ مَجْدُور و مُجَدَّر: چیچک میں مبتلا، چیچک کے داغوں والا۔ مُجَدَّرَة: چاول، مسور کی دال، پیاز اور تیل سے پکایا ہوا کھانا۔

حدع ۱۔ جَدَعَ ـ جَدْعًا الانفَ و ماشاكلهٗ: ناک یا ہونٹ وغیرہ کو کاٹنا۔ کہا جاتا ہے: لِأَمْرٍ مَا جَدَعَ قَصِیرٌ انفَهٗ: قصیر نے اپنی ناک کسی خاص مصلحت سے کاٹی۔ یہ ضرب المثل اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اپنی خواہش کے حصول کے لئے سخت مشقت برداشت کرے۔ جَدِعَ ـ جَدَعًا الرجلُ: کی ناک کٹ جانا۔ صفت اَجْدَع مونث جَدْعاء جمع جُدْع۔ جادَعَ مُجادَعَةً و جِداعًا ہٗ: کو گالیاں دینا، سے جھگڑا کرنا۔ تَجادَعا: ایک دوسرے سے جھگڑنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ کہتے ہیں: ترکتُ البلادَ تَتَجادَعُ اَفاعِیهِ: میں نے ملک کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہاں کے اشرار ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ الجَدَعَة: کٹنے کے بعد عضو کا بچا ہوا حصہ، کٹنے کی جگہ۔ المِجْداع: عضو کاٹنے کا اوزار۔

۲۔ جَدَعَ ـ جَدْعًا فلانًا: کو محبوس کرنا، قید کرنا۔ — الرجلُ عیالَہٗ: اپنے بال بچوں کے نان نفقہ کو روک لینا۔ جَدَّعَ ہٗ: کسی سے جَدْعًا لکَ کہنا: یعنی کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو عیب دار کرے اور خیر تجھ سے روک دے۔ (مفعول مطلق کی وجہ سے منصوب ہے)۔ جَداعِ (قطامِ کے وزن پر) سخت سال۔ کہا جاتا ہے: اجحفت بہم جَداعِ: ان کو قحط سالی نے برباد کر دیا۔

۳۔ جَدِعَ ـ جَدَعًا: کی خوراک کا برا ہونا۔ صفت: جَدِع۔ جَدَعَ ـ و جَدَّعَ و اَجْدَعَ الولدَ: بچہ کو بری خوراک دینا۔

۞ جَدَعَ ـ جَدْعًا ہٗ: کو کاٹ دینا، قطع کرنا (خصوصاً کسی عضو کو)۔ یجدع الانفِ: کسی قیمت پر، بلا لحاظ کسی قربانی کے۔ اَجْدَع: کٹے ہوئے عضو والا۔ جَدَع (= جَذَع) جمع جِدْعان: نوجوان، نوجوان ساتھی، روادار، دبنگ آدمی۔

جدف ۱۔ جَدَفَ ـ جُدُوفًا الطیرُ: پرندے کا کٹے ہوئے پروں سے اڑنا۔ — الرجلُ: تیز چلتے ہوئے ہاتھ ہلانا۔ جَدْفًا الملّاحُ السفینةَ: ملاح کا کشتی کو چپو سے کھینا۔ جَدَفَ الملّاحُ: ملاح کا چپو سے ڈونگا چلانا۔ المِجْداف جمع مَجادِیف: چپو۔ مِجدافا الطیرِ: پرندے کے دونوں بازو۔

۲۔ جَدَفَ ـ جَدْفًا الشیءَ: کو کاٹنا۔ — الظبیُّ: ہرن کا چھوٹے قدم سے چلنا۔ ظِباءٌ جَوادِف: چھوٹے قدموں سے چلنے والی ہرنیاں۔ جُدِفَ علیہ: تنگی میں مبتلا کیا جانا۔ اسی سے ہے: اِنّهٗ لَمُجَدَّفٌ علیه العیشُ: وہ تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مَجْدُوف: کٹا ہوا، چھوٹا۔ کہا جاتا ہے: رجل مجدوفُ الیدِ: کٹے ہاتھ والا یا چھوٹے ہاتھ والا۔ هو مجدوف الازار او القمیص: وہ چھوٹے ازار یا قمیص والا ہے۔ مجدوف الیدَین: کنجوس۔

۳۔ جَدَفَ ـ جَدَفاتِ السماءُ بالثلجِ: آسمان کا برفباری کرنا۔

۴۔ جَدَّفَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ (کہا جاتا ہے: لا تُجَدِّفُوا بنعمِ اللہ: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو)۔ — علی اللہِ: اللہ تعالیٰ کے متعلق کفر اور توہین آمیز باتیں کرنا۔ التَّجْدِیف جمع تَجادِیف: اللہ تعالیٰ کے متعلق کفر اور توہین آمیز کلام۔

۵۔ اَجْدَفَ القومُ: چلانا، شور مچانا۔ الجَدَفَة: شور و غل، شور شغب۔

۶۔ الجُدافی و الجَدافاء: غنیمت۔

جَدَّفَ علی (کسی شخص) ۔۔۔ کرنا۔ (اللہ تعالیٰ) کی شان میں گستاخی کرنا، کفر بکنا۔

تجدیف: لعنت، بددعا، کلمۂ کفر، دین کی مذمت۔ جَدَفَ ـ و جَدَّفَ ہٗ: (کشتی) چلانا، کھینا، چپو چلانا۔ مِجْداف جمع مَجادِیف: چپو، ناؤ کھینچنے کا ڈنڈا۔

جدل ۱۔ جَدَلَ ـ جُدُولًا الشیءُ: سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ صفت جَدِل و جَدْل۔ ـ جَدْلًا و جَدِلَ ـ جَدَلًا الحبُّ: دانہ کا خوشہ میں سخت ہونا۔ — الولدُ: بچہ کا قوی اور سخت ہڈی والا ہونا۔ الجَدْل جمع جُدُول (مص): سخت عضو۔ الجَدْلَة: پاؤں کا دستہ، ہاون کی موسلی۔ الجَدِیلَة: رائے کی پختگی۔ الاَجْدَل و الاَجْدَلی جمع اَجادِل: شکرا۔

۲۔ جَدَلَ ـ جَدْلًا الحبلَ: رسی بٹنا۔ جَدَلَ الشَّعْرَ: بالوں کو گوندھنا۔ الاَجْدَل: بٹا ہوا۔ کہا جاتا ہے: ساعدٌ اَجْدَل: خوبصورت گٹھی ہوئی کلائی۔ الجَدِیل جمع جُدُل: بٹی ہوئی رسی۔ جُدُولُ الانسان: انسان کے ہاتھ پیر کی کھوکھلی ہڈی۔ الجَدِیلَة: طریقہ (کہا جاتا ہے: عَمِلَ علی جَدِیلَتِهٖ: اس نے اپنے طریقہ پر کام کیا)، گندھے ہوئے بال، چوٹی، بالوں کی لٹ۔ جَدالَةُ الخَلْقِ: عضو کی خوبصورتی۔ المَجْدُول: بٹا ہوا، مضبوط بٹا ہوا۔ کہا جاتا ہے: رجل مَجْدُول: مضبوط اور خوبصورت آدمی۔ جَدْلاء جمع جُدْل: مضبوط۔

۳۔ جَدِلَ ـ جَدَلًا الرجلُ: سخت جھگڑالو ہونا۔ جادَلَ جِدالًا و مُجادَلَةً ہٗ: سے جھگڑنا، جھگڑا کرنا۔ تَجادَلا: ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا۔ الجَدَل: جھگڑا، جھگڑے میں مہارت، بحث، بحثا بحثی، مباحثہ، مناقشہ، قیل و قال، مشہور اور مسلمہ مقدمات پر مشتمل قیاس۔ جیسے آپ کہیں: فلان یطوف فی اللیل فهو لصٌّ: چونکہ فلاں شخص رات کو ادھر ادھر پھرتا ہے اس لئے وہ چور ہے۔ الجَدِل و الجَدّال و المِجْدَل و المِجدال: بہت جھگڑالو۔

۴۔ جَدَلَ ـ جَدْلًا و جَدَّلَ ہٗ: کو زمین پر گرا دینا۔ تَجَدَّلَ و اِنْجَدَلَ: زمین پر گر پڑنا۔ الجَدالَة: زمین۔

۵۔ الجَدِیلَة: قبیلہ، گوشہ۔ المِجْدَل جمع مَجادِل: محل۔ المَجْدَل: لوگوں کی جماعت۔ الجَدْوَل و الجِدْوَل جمع جَداوِل: چھوٹی نہر، راجباہا۔ منطق قضیوں کی شکل جیسے حساب میں جدول الضرب (پہاڑہ) کہا جاتا ہے: استقام جدول القوم: قوم کا کام انتظام پذیر ہوا۔

۞ جَدَلَ ـ جَدْلًا ہٗ: (رسی) کو مضبوط بٹنا، مضبوط کرنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پھیلانا، (بالوں) کو گوندھنا، (کی) چوٹی یا چٹیا کرنا۔
حَدَّلَ ہ کو گوندھنا، (ڈورے) بٹنا، ڈوری لگانا۔
جَادَلَ ہ سے جھگڑنا، سے حجت کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، نوک جھوک کرنا، بحث وتمحیص کرنا، کٹ حجتی کرنا، مباحثہ کرنا، استدلال کرنا —— فی پر مناظرہ کرنا، کو زیرِ بحث لانا، پر اعتراض کرنا، کے خلاف دلیل پیش کرنا تَجَادَلَ جھگڑا کرنا، مناظرہ کرنا، مباحثہ میں حصہ لینا جَدَل جھگڑا، حجت، مناظرہ، استدلال، بحث مباحثہ، نزاع، بحث فَرَضَ جَدَلاً بحث کی خاطر فرض کرنا، بحث کی بنیاد کے طور پر تجویز کرنا۔
جَدَلی نزاعی، تکراری، متنازع فیہ، حجتی، جھگڑالو، مناظرہ پسند، بحث کرنے والا، تکرار کرنے والا۔
جدّال و مِجدال حجتی، بحث کرنے والا، جھگڑالو، مناظرہ پسند، منطق چھانٹنے والا، منطقی، بحث کا شوقین مِجْدَل جمع مَجَادِل فرش کا پتھر، پتھر کا فرش، فرش کرنے کے لئے پتھر کی سلیں جِدال و مُجَادَلَة جمع مُجادلات بمعنی جَدَل۔ لا یقبل الجدال ناقابلِ تردید، حتمی، یقینی لاجدال و بلا جِدال یقینی طور پر، ناقابلِ تردید طور پر، حتمی طور پر، یقیناً مَجدُول مضبوطی سے بٹا ہوا، گوندھا ہوا، چٹیا کیا ہوا، گندھے ہوئے گیسو، پتلی، لمبی، خوش ترتیب اور خوشنما (ٹانگ وغیرہ) مُجَادِل شریکِ نزاع، جھگڑے میں حصہ لینے والا، جھگڑے میں حریف یا مخالف جَدْوَل جمع جَدَاوِل ندی، آبجو، نالہ؛ کالم، فہرست، فوجی فرائض کی فہرست، فہرست مضامین، نقشہ، گوشوارہ، فرد جدولِ دِراسیّ نصابِ تعلیم جدولُ البورصة شاک لسٹ۔
خارِجَ جدولِ البورصة غیر مذکور (صرافہ)۔
جَدْوَلُ الأعمال ایجنڈا، کام کا پروگرام۔

جدم: جَدَمَ جَدَمًا تِ النخلةُ کھجور کے درخت کا پھل دار ہوکر خشک ہوجانا صفت جادِم —— ہ فانجدم کو کاٹنا، کاٹ جانا الجَدَم گھٹیا درجے کے لوگ الجَدَمة پست قد آدمی —— و الجُدامة وہ بالیاں جو پہلی بار گاہنے میں نہ ٹوٹیں۔

جدا: اِجْدَا جَدواً علیہ کو عطیہ دینا —— و اِجتدی و اِستجدی فلاناً سے اپنی حاجت طلب کرنا، سے عطیہ مانگنا أجدی اِجداءً عطیہ پانا —— فلاناً کو عطیہ دینا اِجتَدی ہ کو عطیہ دینا۔
الجَدِیّ سخی، فیاض الجَدا و الجَدْوی عطیہ۔
الجَداء عطاء الجَادی عطیہ کا سائل، عطیہ دینے والا۔

۲۔أجدی إجداءً الامرُ نفع دینا، مفید ہونا۔ کہتے ہیں: مایُجدی عنک هذا تم کو یہ نفع نہیں بخشے گا، فائدہ نہ دے گا الجَداء نفع۔ کہا جاتا ہے فلانٌ قلیل الجداء عنک فلاں شخص تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا الأجدی زیادہ نفع بخش الجدا عام بارش۔
۳۔الجَدْوة جمع جَدو گلہ، ریوڑ الجادِیّ (ن) زعفران۔
○ جَدَا جَدواً علی کو عطیہ دینا، تحفہ دینا اجدی علی ب کو بطور عطیہ کچھ دینا، کو کوئی چیز دینا۔
أجدی کارآمد ہونا، نفع بخش ہونا أجدی نفعاً کارآمد ہونا هذا لا یُجدیك یہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، یہ تمہارے کام نہیں آئے گا مایجدی عنك هذا یہ تمہارے کام نہیں آئے گا لایُجدی فتیلاً، لا یُغنی فتیلاً یہ کسی کام کا نہیں اِستَجدی خیرات مانگنا —— ہ سے کچھ مانگنا —— ہ: کی التجا کرنا۔
جداء عن کے لئے نفع، فائدہ جَدْوی تحفہ، فائدہ نفع بلا جَدْوی و علی غیر جَدْوی بے کار، فضول، ناکارہ، لاحاصل، بے اثر، بے نتیجہ۔
أجدی زیادہ مفید، زیادہ سودمند۔

جدی: جَدی جَدْیًا عطیہ مانگنا أجدی إجداءً الجرحُ زخم کا بہنا الجَدْی جمع أجْدٍ و جِداء و جدیان (ح) پہلے سال کا بکری کا بچہ (فک) قطب کے پاس کا ایک ستارہ جس سے قبلہ کی شناخت کی جاتی ہے۔ اسے جدی الفرقد بھی کہتے ہیں۔ آسمان کے ایک برج کا نام جو برج دلو سے متصل ہے الجَدِیّة جمع جَدَی و جَدِیّات زین یا پالان کے نیچے کی گدی۔ یہ جَدِیّتان ہوئے۔
○ الجَدْی شمالی ستارہ جَدی جمع جِداء و جِدیان بکری کا بچہ، برج جدی، دسواں برج۔

جذ: اِجذَّ ہ جَذّاً فانجذَّ کو کاٹنا یا توڑنا جس کے نتیجہ میں اس کا کٹ جانا، ٹوٹ جانا تَجَذَّذَ ٹکڑے ٹکڑے ہوجانا الجِذّ جمع جُذاذ کٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی چیز کا چھوٹا ٹکڑا۔ آپ کہتے ہیں کسرتُ الی الصنم فکسرته أجذاذاً میں بت کی طرف سمٹا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے الجُذّة ٹکڑا۔ الجُذاذ و الجَذاذ و الجِذاذ ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا یا ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی چیز، سونے کا ڈلا الجذاذ و الجَذاذة ہر شے کی زیادتی۔ کہا جاتا ہے جذاذته علیه کذا وہ اس سے اس قدر زیادہ ہے الأجَذّ مونث جَذّاء ٹوٹا ہوا الجُذاذات کٹی ہوئی شے [illegible] عندی جُذاذاتٌ من الفضة میرے پاس چاندی کے ریزے ہیں۔
۲۔جَذَّ جَذّاً فی سیرہ تیز تیز قدم چلنا جَذَّذَ قوم سے اپنی پیروی چاہنا مگر کسی کا اس کی پیروی نہ کرنا۔
○ جَذَّ جَذّاً ہ کو کاٹ ڈالنا، کاٹنا، کترنا، تراشنا۔
جُذَافة جمع جُذاذات کاغذ کا پرزہ (slip of paper) جُذاذات چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چیتھڑے، پرزے، دھجیاں، ٹکڑے، کترنیں، ردی، بے کار چیزیں، ٹوٹی پھوٹی چیزیں، تراشے۔

جذب: اِجذَبَ جَذْباً و اِجتَذَبَ ہ الیہ فانجَذَبَ کو اپنی طرف کھینچنا، تو اس کا کھنچا جانا۔
جَاذَبَ ہ و تجاذبا الشیءَ کسی چیز کے بارے میں کشمکش کرنا، کسی چیز کے بارے میں باہم کشمکش کرنا جَذاب موت کا اسم علم الجَذّابة چھوٹی چڑیوں کا شکار کرنے کے لئے بالوں کا پھندا۔
الجَاذبیّة (ف) کشش کی طاقت وقوت، قوت کشش جاذبیة الارض زمین کی قوت کشش۔
جَاذبیةُ الجمال حسن کی قوت کشش (مجازاً)
۲۔جَذَبَ الشهرُ مہینہ کا زیادہ حصہ گزر جانا۔
اِنجَذَبَ فی السیر تیز چلنا، دور تک چلے جانا۔ کہا جاتا ہے انجذب بهم السیرُ وہ دور تک چلے گئے الجَذْبة دور کی مسافت۔ کہا جاتا ہے بینه و بین المنزل جَذْبةٌ اس کے اور گھر کے درمیان لمبی مسافت ہے۔
۳۔جَذَبَت الناقةُ اونٹنی کا دودھ کم ہونا —— المهرَ عن اُمّه بچھیرے کا دودھ چھڑانا تجاذب اللبنَ دودھ پینا الجاذب جمع جواذب و جذاب (فا) کم دودھ والی اونٹنی۔
○ جَذَبَ جَذْباً ہ کو کھینچنا، کوشش کرنا، گرویدہ کرنا، متوجہ کرنا، کو کھینچ کر نکالنا، تلوار وغیرہ نکالنا —— ہ: کی توجہ مبذول کرنا، کے لئے دلکش ہونا، کو پسند آنا، مرغوب ہونا، کے لئے دلکش ثابت ہونا، کو موہنا، لبھانا، رجھانا، گرویدہ کرنا، فریفتہ کرنا، شیفتہ کرنا، پر جادو کرنا، کو مسحور کرنا، للچانا، سبز باغ دکھانا —— ہ الیہ کو اپنے ساتھ ملا لینا، کو ہم نوا بنالینا جَاذَبَ ہ ہ سے کسی چیز کو کھینچنے وغیرہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا جاذبة الحبل سے مقابلہ کرنا (رسہ کشی میں)۔ کسی سے مقابلہ کرنے کے قابل ہونا، کے معیار پر پورا اترنا، کا مدمقابل یا حریف ہونا، کا جوڑ ہونا جاذبة الکلامَ یا جاذبة حدیثاً یا جاذبة اطراف الحدیث اس نے اسے گفتگو میں مشغول کیا، اسے مباحثہ میں مصروف رکھا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جَاذَبَهُ اطرافَ الحَضَارَةِ: سے ثقافت میں مقابلہ کرنا۔ تَجَاذَبَ ہ: کو آگے پیچھے کھینچنا۔ ــــ ہ/ ہ: کو جیتنے کی کوشش کرنا۔ ــــ: ایک دوسرے کو کشش کرنا۔ تجاذبوا اطرافَ الحدیث: وہ گفتگو میں غرق تھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اِنجَذَبَ: کھینچا جانا، کشش کیا جانا۔ ــ الی: کی طرف کھنچے چلا جانا، کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ اِجتَذَبَ ہ/ ہ الیہ: کو اپنی طرف کشش کرنا۔ ــــ ہ: کو للچانا، سبز باغ دکھانا، موہ لینا، لبھانا، ورغلانا، پھسلا کر لیجانا۔ ــــ ہ الیہ: کو اپنے ساتھ ملا لینا، کو ہمنوا بنالینا۔ ــ ہ: سگرٹ وغیرہ کے کش لینا۔ جَذب: کشش، دلکشی، دل چسپی، ورغلاہٹ، دل فریبی، لبھانا۔ اَخَذَ جَذبًا: چھیننا، طاقت سے لینا۔ الجَذبُ الجنسی: جنسی کشش (sex appeal)۔ جَذَّاب: دل کش، دل ربا، گرویدہ کرنے والا، جاذب، مقناطیسی (مجازاً)، کسی جگہ سے ہوا خارج کرنا تا کہ کوئی اور چیز اندر لائی جا سکے suction۔ ایسے عمل کے متعلق مشغول رکھنے والا، دل فریب، دلربا، موہنا، اپنی طرف توجہ مبذول کروائے رکھنے والا۔ اجذَب: زیادہ دلکش، زیادہ دل فریب، زیادہ موہنا۔ انجذاب: کشش، رغبت، میلان، رحجان۔ جاذب: دلکش، دل ربا، گرویدہ کرنیوالا، جاذب، مقناطیسی (مجازاً)، مشغول رکھنے والا، دل فریب، موہنا، اپنی طرف توجہ مبذول کرائے رکھنے والا۔ اجتذاب: کشش، ورغلاہٹ، پرکشش شئے۔ جَاذِبیة: کشش، کشش ثقل، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دلبری، دل آویزی، جذب و کشش، سخت کشش، مقناطیسیت (مجازاً)، ورغلاہٹ۔ جاذبیة الثقل: کشش کی قوت۔ جاذبیة مَغنَطِیسِیّة: مقناطیسی قوت، مقناطیسیت۔ جَاذِبِیَّةُ الجنس: جنسی کشش۔ مَجذُوب: کشش کیا ہوا، گرویدہ، لبھایا ہوا، پاگل، سودائی، دیوانہ، مخبوط الحواس، جمع مجاذیب۔ مستشفی المجاذیب: دماغی امراض کا شفاخانہ، پاگل خانہ۔ مُتَجَاذِب: باہمی دلکش، غیر منفک، لاینفک، جدا نہ ہو سکنے والا۔ مُنجَذِب: کشش کیا ہوا۔ ــــ الی: کی طرف مائل، کی طرف میلان رکھنے والا۔

جذر: ۱- جَذَرَ ـ جَذْراً ہ: کو کاٹنا۔ ــــ ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ جَذَّرَ و اَجذَرَ ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ انجذر: جڑ سے اکھڑ جانا۔ الجذر و الجَذر جمع جُذُور: جڑ، اصل۔ جذرُ النبات (ز): پودے کی جڑ۔

۲- جَذَرَ العدَدَ (ع ح): عدد کا جذر حاصل کرنا۔ الجَذر (ع ح): خود میں ضرب دیا ہوا عدد مثلاً دس سو کا جذر ہے، کیونکہ دس کو اس سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب سو ہوتا ہے۔ المَجذُور (ع ح): جذر کا حاصل ضرب، چنانچہ مائة (سو) دس کا مجذور (حاصل ضرب) ہے۔

۳- الجذر من البقرة: گائے کا سینگ۔ الجَوذَر و الجُوذَر و الجُوذُر جمع جَوَاذِر و جَآذِر (ح): نیل گائے کا بچہ۔ المُجَذَّر: بہت پستہ قد۔ الجذرِیَّة: وہ دانت جو رباعیہ کے بعد ہو۔

○ جَذَرَ ـ جَذراً ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ جَذَّرَ ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ــ ہ: (عدد) سے جذر نکالنا۔ ــ: جڑ پکڑنا۔ جِذر و جَذر جمع جُذور: جڑ۔ جذر (ریاضی) تنہ، ڈنڈی، بنیاد، نچلا سرا جمع اَجذار: رسید بک وغیرہ کی پرت جو اپنے پاس رکھی جاتی ہے، بچا ہوا ٹکڑا۔ جذر تربیعی: جذر۔ وہ عدد جس کا جزر مربع ہوتا ہے۔ جِذرِی: جذر کا، بنیادی جزری (الجبرا)۔ تَجذِیر: ارتقاء، جذر نکالنے کا عمل۔

جذع: ۱- جَذَعَ ـ جَذعًا الدابةَ: جانور کو بغیر چارہ کے روکے رکھنا۔ ــ بینَ البعِیرَین: دو اونٹوں کو ایک رسی میں باندھنا۔

۲- جَذَعَ مِذَعَ: (مبنی بر فتح علیحدگی و جدائی کا اظہار کرنے کے لئے) کہا جاتا ہے: ذهبوا جِذعَ مِذَعَ (ذَهَبُوا مُتَفَرِّقِین): وہ جدا جدا چلے گئے۔

۳- الجِذع جمع جُذُوع و أَجذَاع (ز): کھجور کے درخت کا تنہ۔ جِذعُ الانسان: انسان کا دھڑ۔ الجَذَع جمع جِذَاع و جُذعَان من البهائم: چھوٹا جانور۔ (جُذعَانُ الجبال: چھوٹے پہاڑ)، نوجوان۔ کہا جاتا ہے: فلان فی هذا الامر جَذَعٌ: فلاں شخص اس معاملہ میں نوآموز ہے۔ اعدتُ الامرَ جَذَعًا: میں نے اس کام کو از سر نو کیا۔ المُجذَع و المُجَذَّع: بے اصل اور بے ثبات شئے۔

○ جَذَع جمع جُذعان: نوجوان، نیا، ابتدائی، ابتدائی منزل میں۔ عادت الحربُ جَذَعَةً: جنگ دوبارہ شروع ہو گئی، پھر سے بھڑک اٹھی۔ اَعَادَ الأمرَ جَذَعًا: اس نے معاملہ کو دوبارہ شروع کیا، وہ پہلی حیثیت کی طرف لوٹ آیا۔ جِذع جمع اجذاع و جُذُوع: تنا، دھڑ، اصلی حصہ، ٹھونٹھ، ٹنڈ (درخت کا) ٹھنٹھ۔ مجسمے کا دھڑ۔ جِذعِی: تنہ کا۔ تنے کا۔

جذف: ۱- جَذَفَ ـ جَذفًا الطائرُ: پرندہ کا تیز اڑنا۔ أَجذَفَ الطائرُ: پرندہ کا تیز اڑنا۔ جَذَفَ القارب: [illegible] چپو سے کھینا۔ تَجَذَّفَ فی مشیه: تیز چلنا۔ المِجذاف: چپو۔

۲- جَذَفَ و أَجذَفَتِ المرأةُ: عورت کا چھوٹے قدم سے چلنا۔

۳- جَذَفَ ـ جَذَّفَ الشیءَ: کو کاٹنا۔

جذل: ۱- جَذِلَ ـ جَذَلاً و اِجتَذَلَ: خوش ہونا۔ صفت جَذِل و جَذلان جمع جُذلان مؤنث: جَذِلَة و جَذلَی۔ أَجذَلَ ہ: کو خوش کرنا۔

۲- جَذَلَ ـ جُذُولاً و اِستَجذَلَ: سیدھا کھڑا ہونا۔ الجِذل جمع أَجذَال و جُذُول و جِذَال و جِذُولَة: درخت کا ٹھنٹھ (کہا جاتا ہے: عاد الشیءُ الی جِذلِه: چیز اپنی اصل پر لوٹ آئی) خارشی اونٹ کے بدن رگڑنے کیلئے کھڑا کیا گیا لکڑی کا کندہ۔ تصغیر: جُذَیل۔ انا جُذَیلُها المحكك: میں تجربہ کار اور واقف کار ہوں۔ هو جِذلُ مال: وہ مال کا بہتر منتظم ہے۔

۳- تَجاذَلَ القومُ: باہم کینہ رکھنا، باہم دشمنی رکھنا۔

○ جِذل جمع أَجذال و جُذول: (درخت کا) ٹھنٹ۔ جَذِیل: لکڑی کا کھمبا جس پر اونٹ اپنے جسم رگڑتے ہیں۔ جَذَل: خوشی، دل لگی، چہل، خوش طبعی، ترنگ، خوش دلی، زندہ دلی، بہتات، ریل پیل۔ جَذِل جمع جُذلان: خوش، مسرور، شادان، مگن، چنچل، زندہ دل، خوش دل، خوشی کا، روح پرور، شاد، بہت خوش، زندہ دلانہ۔ جَذلان: بمعنی جَذِل۔

جذم: ۱- جَذَمَ ـ جَذمًا و جَذَّمَ ہ فانجَذَمَ و تَجَذَّمَ: کو جلدی سے کاٹنا اور اس کا کٹ جانا۔ صفت: جذیم و اجذَم۔ جَذِمَ ـ جَذَمًا: کٹے ہوئے ہاتھ یا کٹی ہوئی انگلیوں والا ہونا۔ جُذِمَ: کوڑھی ہونا۔ صفت: اجذَم و مَجذُوم و مُجَذَّم۔ اَجذَمَ یدَه: کا ہاتھ کاٹنا۔ الجذم و الجِذم جمع جُذُوم و اجذَام: جڑ، تنہ۔ الجُذمَة: ٹکڑا، ٹکڑا۔ الجَذمَة و الجَزمَة: وہ جگہ جہاں سے ہاتھ کٹا ہو۔ الجذمة: کوڑا، چابک۔ الجُذام (طب): کوڑھ۔ الجُزامة: کٹی ہوئی کھیتی کا بقیہ حصہ۔ الأَجذَم جمع جَذمی و جَذماء: کٹے ہوئے ہاتھ والا یا کٹی ہوئی انگلیوں والا۔ کہا جاتا ہے: هو أَجذَمُ الحُجَّة: اس کے پاس نہ تو دلیل ہے نہ قوت گویائی و بیان۔ المِجذَام و المِجذَامَة: معاملات میں قطعی اور فوری فیصلہ دینے والا، رشتہ اور دوستی کو جلد ختم کر دینے والا۔ أَجذَمَ عن الشیء: سے باز رہنا۔ ــ علیه: کا پختہ ارادہ کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

٣_ اَجْذَمَ فی سیرہٖ: تیز چلنا۔
○ جَذَمَ ـ جَذْمًا ہ: کو کاٹنا (خصوصاً جسم کا کوئی حصہ)۔ ــــ ہ: گلے کی گلٹی، آنتیں وغیرہ) بذریعہ سرجری نکال دینا، کاٹ دینا۔ جِذْم جمع جُذُوم و اَجْذام: جڑ۔ جُذام: کوڑھ۔ جُذامَۃ: (پودوں کے) ٹھنٹھ۔ اَجْذَم جمع جَذْمَی: کوڑھی، جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں۔ مَجْذُوم: کوڑھی۔
○ جُذْمُور: ٹھنٹھ۔

جذا: جَذَا ـ جَذْوًا و جُذُوًّا و اَجْذَی علی الشیء: پر سیدھا کھڑا رہنا۔ تَجَاذَی الحجرَ: پتھر اٹھانا۔ الجَذَاۃ جمع جَذاء: بڑے درختوں کی جڑیں۔ الجُذْوۃ و الجَذْوۃ و الجِذوۃ جمع جُذًی و جِذًی و جِذاء: دہکتا ہوا انگارہ، جلتی ہوئی چنگاری۔ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ جذوۃ شرٍّ: فلاں شخص فساد کی چنگاری ہے۔ شر وفساد کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔

جذی: جَذَی ـ جَذْیًا و اَجْذَی فلانًا عنہ: کو سے روکنا۔ تَجَاذَی تَجاذِیًا: کھسک جانا۔ الجِذی و الجِذیۃ من الشجرۃ: درخت کی جڑ۔
○ جَذْوۃ و جِذوۃ و جُذوۃ جمع جِذًی و جُذًی و جِذاء: جلتی ہوئی لکڑی۔

جرّ: ١_ جَرَّ ـ جَرًّا ہ و بہ: کو کھینچنا، گھسیٹنا ــ الابلَ: اونٹوں کو آہستہ آہستہ ہانکنا۔ جَرَّہ و بہ: کو زور سے کھینچنا۔ جَارَّہ رَسَنَہ: کو چھوڑ دینا کہ جو چاہے کرے، کو اس کی مرضی پر چھوڑ دینا۔ اَجَرَّ الرَسَنَ: رسی کھینچنا۔ ــ ہ رسنہ: کو اس کی مرضی پر چھوڑ دینا، کو چھوڑ دینا، جو چاہے کرے۔ ــــ ہ الرمحَ: کو نیزہ مار کر اور زخم میں چھوڑ کر کھینچنا۔ گھسیٹنا۔ اِنْجَرَّ: کھینچا جانا، گھسیٹا جانا۔ اِجْتَرَّ و اِجْدَرَّ الشیءَ: کو کھینچنا۔ اِسْتَجَرَّ الشیءَ: کو کھینچنا ــــ المالَ: کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا ـ لفلانٍ: کا مطیع و فرمانبردار ہونا۔ الجَرّ (مص) اسی سے ہے۔ کَانَ ذلک عام کذا وھلمَّ جَرًّا اِلی الیوم: یہ فلاں سال میں تھا اور آج تک ایسا ہی ہے۔ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جس میں عامل محذوف ہے یعنی جُرَّ جَرًّا ہے۔ یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے صفت کی تاویل کے ساتھ یعنی ھَلُمَّ جارًّا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ فعلتُ ذلک من جَرَّاکَ و جَرَّائِکَ و جَرَاکَ و جَرَائِکَ: یہ میں نے تمہاری وجہ سے کیا۔ اور جرہ جذب کے معنی سے ماخوذ ہے۔ الجُرَّۃ جمع جُرَر: ہرن پکڑنے کے لئے لکڑی کا پھندا۔ الجَرَّۃ جمع جَرّ و جِرار: جَرَّۃ کا اسم مرۃ۔ الجِرَّۃ: کھینچنے کی ہیئت۔ الجَرُور من الآبار: گہرا کنواں۔ ـــ من النساء: چلنے سے اپاہج عورت۔ فرسٌ و جملٌ جَرُور: بے قابو گھوڑا اور اونٹ۔ المَجَرّ: پانی بہنے کی جگہ۔ المِجَرّ: موٹا رسا کا جو محور کے گرد گھومنے والی چیز کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ المَجَرَّۃ (فلک): کہکشاں، عام لوگ اسے دربُ التبّانۃ کہتے ہیں۔ الجارُور: پانی بہنے کی جگہ، سیلاب سے پیدا شدہ نالہ، چھوٹی صندوقچی جو کھینچ کر کھلے۔ الجَرّار: بہت کھینچنے والا۔ جَیشٌ جَرّار: بہت بڑا لشکر، صندوقچی جو کھینچ کر کھلے، (عام زبان میں) الجَرّارۃ جمع جَرّارات (حی): ٹریکٹر۔ (ح): زرد رنگ کا بچھو جو اپنی دم کو گھسیٹ کر چلتا ہے۔

٢_ جَرَّ و اِجْتَرَّ البعیرُ: اونٹ کا جگالی کرنا۔ اَجَرَّ البعیرُ: اونٹ کا جگالی کرنا۔ الجِرَّۃ و الجَرَّۃ: جگالی۔ حیوانٌ مُجْتَرّ: جگالی کرنے والا جانور جمع الحیوانات المُجْتَرَّۃ: جن میں مشہور گائے اور اونٹ ہیں۔

٣_ جَرَّ ـُ الکلمۃَ: لفظ کو جر کی حرکت دینا یعنی اس کے آخر میں زیر دینا۔ الجَرّ: (زیر (ـِ) ایک قسم کا اعراب خواہ حرکت کی شکل میں یا حرف کی صورت میں۔

٤_ جَرَّ علی نفسہ جَرِیرَۃً: گناہ کا ارتکاب کرنا۔ الجَرِیرَۃ: گناہ، جرم۔ کہا جاتا ہے۔ فعلتُ ذلک من جریرتک: میں نے یہ تمہاری وجہ سے کیا۔

٥_ جَرَّ ـُ جَرًّا لسانَ الفصیلِ: اونٹنی یا گائے کے چھوٹے بچے کی زبان چیرنا کہ وہ دودھ نہ چوس سکے۔ اَجَرَّ الفصیلَ: اونٹنی یا گائے کے چھوٹے بچے کی زبان چیرنا تاکہ وہ دودھ نہ چوس سکے۔ ــــ لسانَہ: کو بولنے سے روکنا۔

٦_ اَجَرَّہُ الدَّیْنَ: کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا۔ جَارَّہ: کو ٹال مٹول کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ جَارَّہُ الدَّیْنَ: اس نے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کی۔

٧_ الجَرّ: گڑھا (جَرُّ الجبل: دامن کوہ)، بجو وغیرہ کا بھٹ۔ الجُرَّۃ جمع جُرَر: غلہ بونے کے لئے سوراخ والا برتن۔ الجَرَّۃ جمع جَرّ و جِرار: (مٹی کا) مرتبان، گھڑا۔ بھوبھل میں پکائی ہوئی روٹی۔ الجِرَّۃ: خانہ بدوش لوگ۔ الجِرِّیّ (ح): ایک قسم کی بام مچھلی۔ الجِرِّیَّۃ و الجِرِّیْئَۃ (ع ا): پرندہ کا پوٹا۔ الجَرّار: کمہار، گھڑا بنانے یا بیچنے والا۔ الاَجَرَّان: انس و جن۔ المَجَرّ: شہتیر (دو دیواروں کے درمیان رکھا ہوا)۔

٨_ جَرْجَرَ الجملُ: اونٹ کا [illegible] میں پانی کا گڑگڑانا ــــ و تَجَرْجَرَ الماءَ: پانی کو غٹ غٹ پینا۔ الجَرْجَر جمع جَراجِر: حلق۔ الجَرْجارۃ: چکی۔

٩_ الجَرْجَر جمع جَراجِر: غلہ گاہنے کا آہنی آلہ یا مشین۔ الجِرجِر و الجَرْجَر: لوبیا، چنا۔ الجَرْجِیر (ن): چشموں یا دلدلوں کے قریب یورپ اور ایشیا کے معتدل حصوں میں پیدا ہونے اور سلاد کے طور پر کھائی جانے والی سبزی کی ایک قسم۔

○ جَرَّ ـ جَرًّا ہ: کو کھینچنا، نکالنا، گھسیٹنا، جھٹکا دے کر کھینچنا، رسی باندھ کر کھینچنا، گھسیٹ کر لیجانا، جال ڈال کر اوپر کھینچنا، پیچھے گھسیٹنا، پیچھے گھسیٹتے ہوئے چلنا۔ ــــ ہ/ہ: کو کھینچنا، گھسیٹنا ــ ہ علی: (چیک کسی بنک کے نام) کاٹنا، کو کے اوپر گرانا ــ الی: پر منتج ہونا، کا باعث ہونا۔ ــــ ہ علی: کسی برائی کا کسی کے لئے قدرتی نتیجہ ہونا۔ جَرَّ جریرۃ علی: کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب کرنا، سخت توہین کا مرتکب ہونا۔ جَرَّ قیودًا: بیڑیاں پہن لینا۔ جَرَّ النارَ الی قُرْصِہ: اپنے لئے فوائد حاصل کرنا، اپنا گھر بھرنا۔ لا یجرُّ لسانَہ بکلمۃ: وہ اپنے ہونٹوں سے کوئی بات نکلنے نہیں دے گا۔ اَجَرَّ: جگالی کرنا۔ اِنْجَرَّ: جر کا مجہول کا صیغہ۔ (نیز) ہانکا جانا، بہالیجایا جانا، بہہ جانا، بہے چلے جانا۔ اِنْجَرَّ الی الوراء: ہٹ جانا، پیچھے ہٹنا، کا شکار ہونا۔ اِجْتَرَّ: جگالی کرنا۔ اِجْتَرَّ الآلامَ: اپنی تکلیفوں کے بارے میں دیر تک غور کرنا۔ جَرّ: کھینچنا، گاڑیوں کو کھینچنا، گھسیٹنا، گھسیٹ کر لیجانا، باعث ہونا، سبب ہونا، وجود یا عمل میں لانا، حالت جری۔ حرف الجر: حرف جار۔ و ھلمّ جرًّا: وغیرہ وغیرہ، و قِس علی ھذا، الخ۔ جَرَّۃ جمع جِرار: (مٹی کا) مرتبان، گھڑا۔ جَرَّۃ و جُرَّۃ: نشان، لیک (گاڑی کی چھوڑی ہوئی) لیک۔ بِجَرَّۃ قلمٍ: یک جنبش قلم۔ جِرَّۃ: جگالی۔ مِن جَرّیٰ: کی وجہ سے۔ مِن جَرّاکَ: تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر۔ مِن جَرّاءِ: کی وجہ سے، کے باعث۔ من جراءِ اَنْ: چونکہ، کی وجہ سے، کے باعث۔ مِن جراءِ ان: چونکہ، کی وجہ سے، کے باعث۔ جَرّار: (لشکر) جرار، بہت بڑا، بہت ہی بڑا، کمہار، گل ساز۔ (جمع جَرّارات): ٹریکٹر، ٹگ، (ٹگ بوٹ) دخانی ٹگ، ٹو لانچ towing۔ launch۔ جارُور جمع جَوارِیر: (میز وغیرہ) کی دراز۔ جارُورۃ: جلی کریدنی (اوزار)۔ جَرِیرۃ جمع جَرائِر: گناہ، قصور، خطا، جرم، خلاف ورزی، انتہائی ظلم، سخت توہین۔ مِن جَرِیرۃِ: کی وجہ سے، کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

باعث۔ جَـرَّارَہ جمع جَـرَّارات: ایک قسم کا بچھو، زیکٹر۔ مِجَرّ: آثار، مَجَرَّۃ: کہکشاں۔ اِنْجَرارِیۃ: گاڑی وغیرہ کی کھنچائی کی اجرت۔ مَجْرُورٌ: کھینچا ہوا، گھسیٹا ہوا، ٹوکیا ہوا، حرف جس پر زیر ہو۔ (جمع مجارير): نالی، گندہ نالہ، بدرو۔ مَجارِير: گندے نالے، بدرو، گندے پانی کی نالیوں کا نظام۔ مُجْتَرّ: جگالی کرنے والا، جگالی کرنے والا جانور۔

جرؤ: ۱۔ جَرُؤَ جُـراءَۃً و جُرْاۃً و جُرَاۃً و جَرَائِیَۃً علیہ: پر دلیر ہونا، جرأت کرنا۔ صفت: جَـرِیْ۔ جَرَّأَہُ تَجْرِیئاً فَاجْتَرا: کو پر جرأت دلانا تو اس کا جرأت کرنا۔ اِسْتَجْرا: بناوٹی دلیر بننا، جھوٹ موٹ دلیری دکھانا۔ جَرِیْ جمع أَجْرَاء و أَجْـرِیاء: دلیر، جرأت مند۔ الـجَرِینۃ جمع جَـرائِـی: درندوں کے شکار کرنے کا مکان۔

۲۔ الجَرِینۃ (ع ا): پوٹا، حلق۔

○ جَرُؤَ جُـرْأَۃً و جَـرَاءَۃً علی: کی جرأت کرنا، کو خطرے میں ڈالنا، کا خطرہ مول لینا، کو کہنے یا پیش کرنے کی جسارت کرنا، ــــ (علی/أن): کو کرنے کا خطرہ مول لینا، ــــ علی: کی ہمت رکھنا۔ تَـجَرَّا: بہادر، نڈر یا بے باک ہونا، خطرے میں کود جانے والا ہونا۔ جَـرَّأَہ عـلـی: کو کی جرأت دلانا، کی پر ہمت بڑھانا۔ تَجَرَّأ علی: بمعنی جَرُؤَ علی۔ اِجْتَرَأَ: خطرے میں کود جانے والا ہونا، بہادر، نڈر یا بے باک ہونا۔ ــــ علی: کے ساتھ نڈر ہو جانا، کی ہمت کرنا، کو کرنے کی جسارت کرنا۔ جَرِیْ جمع أَجْـرِیاء: بہادر، جرأت مند، دلاور، باہمت (علی و ب: میں)، گستاخ، دلیر، بہادر، نڈر، بے باک، غیر محتاط، جیالا، بے وقوف۔ جُـرْأَۃ و جُـرَاءَۃ: ہمت، بہادری، بے باکی، گستاخی۔ مُجْتَرِی: بہادر، گستاخ۔

○ جَرَاج جمع جَرَاجَات: گیراج۔

○ جَرَام: گرام۔

○ جَـرَانِیــت: ۰ گرینیٹ (ایک عمارتی پتھر)۔ جَرَانِیتی: گرینیٹی، عمارتی پتھر کا۔

جرب: ۱۔ جَرِبَ جَـرَبًا (طب): کھجلی والا ہونا، کو کھجلی لگنا۔ صفت: جَـرِب و جَـرْبان و أَجْرَب جمع جِـرَاب و جَـرْبَی و اَجَارِب و جُرْب۔ أَجْرَبَ القـومُ: لوگوں کے اونٹوں میں کھجلی کی بیماری کا پھیل جانا۔ ــــ ہ: کو کھجلی کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ الـجَرَب (طب): کھجلی کی بیماری۔ الـجَـرْبَـاء: اجرب کا مؤنث: خارش کی بیماری میں مبتلا عورت، ستاروں بھرا آسمان۔

۲۔ جَرِبَ جَـرَبًا السیفُ: تلوار کا زنگ آلود ہونا۔ الجَرَب: تلوار کا زنگ۔

۳۔ جَرِبَ جَـرَبًا الرجلُ: ہلاکت زدہ زمین والا ہونا۔ الجَرْباء: قحط زدہ زمین۔

۴۔ جَـرَّبَ تَجْرِیبًا و تَجْرِبَۃً ہ: کو آزمانا، کا تجربہ کرنا، کا امتحان لینا۔ الـمُـجَـرَّب: آزمودہ، امتحان لیا ہوا۔ دراھِمُ مُجَرَّبَۃٌ: کھرے درہم۔

۵۔ الـجَرَب: عیب، برائی۔ الـجُراب: سامان سے خالی کشتی۔ الـجِراب جمع أَجْـرِبَۃ و جُـرُب و جُرْب: تلوار کا میان، چمڑے کا برتن، کنویں کا جوف، خصیوں کی تھیلی۔ الـجَـرَبَّۃ: سخت و تند آدمیوں وغیرہ کا گروہ، کھاؤ اور ان کے اہل و عیال۔ الـجِرْبِیاء: شمالی ہوا یا اس کی ٹھنڈ۔ الـجِـرِبَّـان و الـجُرُبَّـان من السـیف: میان، پرتلہ، دھار (فارسی لفظ)۔ ــ من القمیص: گریبان۔

۶۔ جِـرْبَارۃ (ن): لمبے تنے کا جنوبی افریقہ کا ایک پودہ۔ موسم سرما میں پھول لگتے ہیں، حال ہی میں اس کی کاشت شروع ہوئی، برف پڑنے والے ملکوں میں زندہ نہیں رہتا۔

۷۔ جَـرَبِیَّۃ (ن): ایک پھولدار پودا جو یورپ ایشیا خصوصاً بحر ابیض متوسط کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔

۸۔ جَـوْرَبَ ہ فـتَـجَـوْرَب: کو جرابیں پہنانا تو اس کا جرابیں پہن لینا۔ الـجَـوْرَب جمع جَـوَارِب و جَوَارِبَۃ: جراب۔

○ جَـرِبَ جَـرَبًـا: خارش والا ہونا، کھجلی والا ہونا، (رنگ) اڑ جانا، پھیکا پڑنا، ماند پڑنا۔ جَـرَّبَ ہ: کو آزمانا، جانچنا، کا تجربہ کرنا، کو تجربتاً استعمال کرنا، کی کوشش کرنا، کا نمونہ دیکھنا، کی مشق کرنا، دہرانا، کو بار بار یا باقاعدگی سے کرنا، کی کوشش کرنا۔ ــــ ہ: کو جانچنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ کرنا، کو آزمانا، آزما کر دیکھنا، کو شش کرنا۔ جَرَّبَ نَفْسَہُ فی: کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا۔ جَـرَّبَ الأَیّـام: تجربات اکٹھے کرنا۔ جَرَب: خارش، کھجلی۔ جَرِب: خارش والا، کھجلی والا، خارشتی۔ أَجْـرَب مونث جَـرْبَـاء جمع جُـرْب و جَرْبان: کھجلی والا، خارش والا، خارشتی۔ جِراب جمع أَجْـرِبَۃ و جُـرُب: تھیلا، سفری تھیلہ، سفری بیگ، جھولا، بقچہ، خصیوں کی تھیلی، کیس، ڈھکنا، پوش، پوشش، میان، نیام۔ جُرَاب جمع جُرَابات: جراب، موزہ، پائتابہ۔ جَرِیب: قابل کاشت قطعۂ زمین۔ [illegible] آزمائش، آزمائش، تجربہ، آزمائشی معائنہ، ہر دل

عزیزی، وغیرہ دیکھنے کا تجربہ، کوشش، مشق، عمل، سائنسی تجربہ، آفت، ایذا، ترغیب، تحریص، حرص کا پھندا، ــ و تَجْرِبَۃٌ مَطْبَعِیَّۃ: پروف، گیلی پروف۔ تَـجْـرِیـب: آزمائش، پرکھ، جانچ، امتحان، تجربہ، تکلیف، ایذاء، تحریص، ترغیب۔ تَـجْـرِیـبِیّ: تجربہ کا، پرکھ کا، آزمائش کا، جانچ کا، تجرباتی، تجربہ پر مبنی، علمی، تجرباتی، علم النفس التجریبی: تجرباتی نفسیات یا علم النفس۔ تَـجْـرِیـبۃ: تجربہ کاری، تجربیت۔ مُـجَرِّب: تجرباتی، امتحان لینے والا، تجربہ کرنے والا، محرک، لالچ دینے والا۔ مُـجَـرَّب: آزمودہ، تجربہ کیا ہوا، تجربہ سے ثابت شدہ یا مسلمہ قرار دیا ہوا، زمانہ کا آزمایا ہوا، تجربہ کار، پختہ کار، تجربہ کار بنایا ہوا۔

○ جُربُز جمع جَرَابِزَۃ: ٹھگ، پاکھنڈی، بہروپیا، دھوکے باز فریبی۔ جَرْبَذَۃ (نیز جَرْبَذَۃ): دھوکا، فریب ٹھگی، چال، حیلہ سازی، دھوکہ دہی، دغابازی۔

○ جَـرْبُـوع (= یَـرْبُوع) جَرَابیع: چوہے کے مانند ایک جانور جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی لمبی اور دم طویل ہوتی ہے۔

○ جَرَبَنْدِیۃ (اور جَرَابَنْدِیَۃ): جھولا، بقچہ۔

جرث: ۱۔ الجِرِّیث (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

۲۔ تَجَرْثَمَ: اوپر سے نیچے گر کر کانپتے ہوئے اکٹھا ہونا اور سکڑ جانا۔ اِجْرَنْثَمَ: اپنی جگہ جمے رہنا، اوپر سے نیچے گر کر کانپتے ہوئے اکٹھا ہونا اور سکڑ جانا۔ الجُرثوم و الجُرثُومَۃ جمع جَرَاثِیم من الشیء: جڑ، درخت کی جڑ میں جمع شدہ مٹی۔ (جُـرْثُـومَۃُ الـنـمـل: چیونٹیوں کی بستی)۔ جراثیم، جرثومہ، بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے۔ microbe

○ جُـرْثُـوم، جُـرْثُومَۃ جمع جَـرَاثِیم: جڑ، اصل، جرثومہ، جراثیم (germ)، microbe, bacteria, bacillus۔

جرج: جَرِجَ جَرَجًا الرجلُ: سخت زمین پر چلنا۔ ــ الـخـاتـمُ فی اصبعہ: کی انگلی میں انگوٹھی کا ڈھیلا ہونا۔ صفت: جَـرِج۔ الـجَـرَج: سخت زمین۔ الجُرْجَۃ جمع جُرُج: خرجی نما تھیلا، توشہ دان۔

○ جَرَاج: گیراج۔ garage

جرح: ۱۔ جَـرَحَ جَـرْحًا ہ: کو زخمی کرنا۔ جَرِحَ جَـرَحًا: زخمی ہونا۔ جَـرَّحَ ہ: کو بہت زخمی کرنا۔ الجُرْح جمع جُرُوح و أُجْراح: زخم۔ الجَارِحۃ جمع جَوَارِح: چھری۔ الـجِراحۃ جمع جِرَاح و جِراحات: زخم (طب): جَرّاح کا پیشہ۔ الجَرّاح و الـجِراحِیّ (طب): زخموں کا علاج کرنے والا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الطبیب الجرّاح: زخموں وغیرہ کو چیرنے پھاڑنے والا، سرجن۔ المَجْرُوح جمع مَجَاریح و الجَرِیح جمع جَرْحَی زخمی۔

۲۔جَرَح جَرْحًا ہ بلسانہ کسی کا عیب و نقص بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے: جَرَحَ الشہادۃَ اس نے گواہی کو باطل کر دیا۔ جَرَّح الشَّہادَۃَ شہادت کو رد کر دینا۔ اسْتَجْرَحَ الشیءُ عیب دار اور فاسد ہونا۔ الجُرْحۃ مخالف کی شہادت اور اس کی دلیل کو باطل کرنے والی چیز۔

۳۔جَرَح جَرْحًا الرجلُ کمانا۔ صفت: جَارِح۔ اسی سے ہے: مَالہ جَارِحَۃٌ اس کا کوئی کمانے والا نہیں۔ اِجْتَرَحَ الشیءَ کو کمانا۔ الجَارِحَۃ جمع جَوَارِح انسان کا عضو خصوصاً ہاتھ (کیونکہ وہ اس سے کماتا ہے)۔ شکاری درندہ، پرندہ یا کتا۔ الجوارح من الطیر شکاری پرندے، جیسے باز۔

۴۔اجترح الإثم گناہ کا ارتکاب کرنا۔ الجِراحۃ جمع جِراح و جِراحات گناہ۔ جَوَارِح: دن (دن کے مصائب سے کنایہ ہے)۔ اسی سے ہے: نعوذ باللّٰہِ من طوارقِ اللیل و جوارحِ النہار ہم دن رات کے مصائب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

◌ جَرَحَ جَرْحًا ہ: کو زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، تکلیف پہنچانا، خصوصاً کسی کے احساسات و جذبات کو۔ جَرَّحَ ہ: گواہی کو کالعدم قرار دینا۔ ہ (گواہ کو) چیلنج کرنا، ناقابل اعتبار قرار دینا۔ ہ/ہ: پر یا کے خلاف باقاعدہ احتجاج کرنا۔ اِجْتَرَحَ ہ: (جرم، ظلم کا) ارتکاب کرنا۔ اِجْتَرَحَ السَّیِّئَات: برے کام کرنا۔ جُرْح جمع جِراح و جُرُوح و جُرُوحات و أَجْرَاح زخم، صدمہ، نقصان، اعضاء کے فعل یا ساخت میں خلل۔ جَرّاح جمع جَرّاحون: سرجن surgeon۔ جَرّاح الأَسْنَان: دانتوں کا سرجن۔ جِراحۃ جرّاحی surgery۔ جَرّاحِیّ: عمل جراحی سے متعلق۔ عَمَلِیَۃ جَرّاحِیَۃ: عمل جراحی surgical operation۔ جَرِیح جمع جَرْحَی: زخمی، تکلیف دیا ہوا، نقصان پہنچایا ہوا۔ تجریح: جراحی surgery، رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی۔ جَارِح نقصان پہنچانے والا، زخمی کرنے والا، چبھتا ہوا، تکلیف دہ، جذبات کو ٹھیس لگانے والا، شکار پہ بسر کرنے والا درندہ، شکار خور، شکار کا عادی۔ جَارِحَۃ جمع جَوَارِح شکاری جانور یا پرندہ۔ جَوَارِحُ الطَّیر: شکاری پرندے۔ جَوَارِح: اعضاء بدن، ہاتھ پاؤں۔ بِکُلِّ جَوارِحِہ پوری قوت سے۔ مَجْرُوح جمع مَجَارِیح زخمی، نقصان پہنچایا ہوا، جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہوا۔

جرد ۱۔جَرَدَ جَرْدًا و جَرَّد العودَ لکڑی چھیلنا۔ — الجلدَ کھال کے بال اتارنا۔ — السیف تلوار کو ننگی کرنا۔ جَرِد جَرَدًا چٹیل ہونا۔ جَرَّدَہُ ثوبَہ و مِن ثوبہ: کے کپڑے اتار کر اس کو ننگا کرنا۔ — الکتابۃَ لکھائی پر اعراب نہ لگانا۔ تجرّدَ: ننگا ہونا۔ — للامر کسی کام کے لئے فارغ ہو کر اس میں جدوجہد کرنا۔ — الفرسُ: گھوڑ دوڑ میں گھوڑے کا آگے نکل جانا۔ اِنْجَرَدَ: ننگا ہونا۔ — بنا السیرُ: کسی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر چلتا رہنا۔ اجْتَرَدَ القطنَ روئی دھنا۔ الجُرْد۔ سواروں کا رسالہ جن میں پیدل چلنے والے نہ ہوں۔ الجُرْدَۃ: ننگا پن، عریانی، برہنگی۔ الأَجْرَد مونث جَرْداء جمع جُرْد بے بالوں والا (عام لوگ اسے اجرودی کہتے ہیں)، کامل، پورا (کہا جاتا ہے: یومٌ او شہرٌ او عامٌ أَجْرَد پورا دن، مہینہ یا سال۔ ما رأیتُہ منذ أَجْرَدَین میں نے اس کو پورے دو دنوں، یا مہینوں یا سالوں سے نہیں دیکھا)۔ — من الخیل: گھوڑ دوڑ میں آگے رہنے والا گھوڑا۔ لبنٌ أَجْرَد: جھاگ کے بغیر دودھ۔ خَمْرَۃ جَرْداءُ شراب صافی۔ صَخْرَۃ جَرْداء: چکنی چٹان۔ المِجْرَد (حی): روئی دھننے کا آلہ، دانت صاف کرنے کا برش۔ الجَرّاد: قلعی گر۔ الجُرَادَۃ: لکڑی کی چھیلن۔ الجَرِیْدَۃ جمع جَرائِد: سواروں کا رسالہ۔ التَّجْرِیْد عند النُّحاۃ: کلمہ کو لفظی عوامل سے محروم کرنا جیسے: زید قام، و عند الصرفیین: کلمہ کا زوائد سے خالی ہونا جیسے قام زیدٌ: التَّجْرِیدَۃ فوج کا دستہ۔

۲۔جَرَدَ جَرْدًا و جَرَّدَ القحط الارضَ: قحط سالی کا زمین کو چٹیل میدان بنا دینا۔ جَرِدَ جَرَدًا المکانُ: کسی جگہ ٹڈیوں کا اترنا۔ جُرِدَتِ الارضُ: کسی جگہ کی کھیتی یا سبزی کو ٹڈیوں کا کھا جانا۔ الجَرْد (مص): مکانٌ جَرْدٌ: نباتات سے خالی جگہ۔ الجَرَد و الجَرِد: نباتات سے خالی جگہ۔ الأَجْرَد: بے نباتات۔ جَرَادَۃ جمع جَرَاد (ح): ٹڈی۔ الجَارُود و الجارُودَۃ من السنین: سخت قحط سالی کا سامان۔

۳۔جَرَدَ الجَرِیْدَۃَ: کھجور کے درخت کی پتوں سے صاف کی ہوئی ٹہنیاں پھینک دینا۔ الجَرِید واحد جَرِیْدَۃ: پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی ٹہنی [illegible] جمع جرائد عند المولدین۔ لاٹھی جسے شہسواروں کے کھیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۔جُرِدَ جَرَدًا الفرسُ گھوڑے کا چھوٹے بالوں والا ہونا۔ صفت: أجْرَد۔ الجَرَد بالوں کا چھوٹا ہونا۔

۵۔جَرِد جَرَدًا الثوبُ کپڑے کا گھس کر نرم ہونا۔ صفت: أَجْرَد۔ انْجَرَدَ الثوب کپڑے کا گھس کا بوسیدہ ہونا۔ الجَرْد پرانا۔ کہا جاتا ہے: الثوبُ الجَرْد پرانا اور بوسیدہ کپڑا۔ الجَرْدَۃ بوسیدہ کپڑا۔ المُتَجَرِد بمعنی الأَجْرَد۔

۶۔الجُرْد جمع جُرُود اونچے پہاڑ۔ (۱۳۰۰ اور ۳۰۰۰ میٹر کے درمیان بلندی والے) عام لوگ انہیں **الصُرُود** کہتے ہیں۔ الجَرْد: ڈھال، بچا ہوا مال۔ الجَرِیْدَۃ جمع جَرَائِد باقی ماندہ مال، رجسٹر، اخبار۔ جریدۃُ الضبط عدالتی مسل۔

۷۔الجَرْدَق و الجُردَقَۃ جمع جَرَادِق روٹی۔

◌ جَرَدَ جَرْدًا ہ: کو چھیلنا، کی چھیل اتارنا، چھال اتارنا، (ناخن وغیرہ) تراشنا، کا خول، کھپرا، چھلکا یا پوست اتارنا، کی بھوسی اتارنا، کو ننگا کرنا، برہنہ کرنا، کے اوپر کی مٹی یا خس و خاشاک ہٹانا، دور کر دینا۔ — مال کی فہرست بنانا۔ — البضائعَ: موجودہ سامان کو فہرست میں درج کرنا۔ جَرَّدَ ہ: کو چھیلنا، کی چھال اتارنا، کی بھوسی خول، کھپرا، چھلکے، یا پوست اتارنا۔ — ہ ہ من: کو سے محروم کر دینا، کو سے بے دخل کر دینا، کے کپڑے اتار دینا، کو برہنہ کرنا۔ — ہ من سے کچھ روکنا۔ — السیف تلوار نکالنا، میان سے نکالنا۔ — ہ علی: کو کے خلاف چھوڑ دینا۔ — ہ ضد/علی فوجی دستہ کو کے خلاف بھیجنا۔ — ہ/ ہ من کو سے آزاد کرنا۔ — ہ کو الگ تھلگ کرنا، علیحدہ کرنا، نکالنا۔ — ہ من: کو شہرت، منصب، ذاتی حق وغیرہ سے محروم کرنا۔ جَرَّدَہ من السلاح: کو نہتا کرنا، کا اسلحہ چھین لینا۔ جَرَّدَ نفسَہ من: اپنے آپ کو سے آزاد کرنا، سے نجات حاصل کرنا، سے جان چھڑانا، سے پیچھا چھڑانا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دیا۔ تَجَرَّدَ: جَرَّدَ کے معنی میں مجہول کا صیغہ۔ — عن/من: سے نجات حاصل کرنا، جان چھڑانا یا پیچھا چھڑانا، اپنے کو سے آزاد کرنا۔ — عن/من لِ: سے کے لئے آزاد ہو جانا۔ — ل: کلیۃً کسی کام میں لگ جانا۔ — من/عن: کو چھوڑ دینا، سے دست بردار ہونا۔ —: اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا، غیر مشروط ہونا۔ جَرْد: ننگا، تار تار، فرسودہ، گھسا پٹا، پھٹا پرانا، سامان مندرجہ فرد، دوکان میں موجود تمام مال کی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فہرست بنانے کا عمل (Stocktaking)۔ جَـرِد: بنجر، بے رنگ سبزہ، سخت (پیش منظر)۔ اَجْـرَد مونث جَرْداء جمع جُـرْد: سنسان، ویران، غیر آباد، روکھا، بے سبزہ، بے روئیدگی، گنجا، بالوں کے بغیر، تار تار، فرسودہ (لباس) کھلی غیر محفوظ (سرحد)۔ جَرَاد (اسم جنس واحد جرادۃ)۔ ٹڈیاں۔ جرادٌ رَحالٌ نقل مکانی کرنے والی ٹڈیاں۔ جـرادُ البَـحـر: جھینگا مچھلی۔ بِجَرادِها: تمام تر، یکسر۔ جَرِید: پتوں کے بغیر کھجور کی ٹہنیاں، کندہ نیزہ جو شہسواری کے کھیلوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جَـرِیْدَہ جمع جَـرَائِد: (جرید کا واحد) کھجور کا ڈنٹھل، فہرست، رجسٹر، بدلی جدول (roster)، فہرست مضامین، اخبار۔ جَرِیْدَۃ یَوْمِیَّۃ: روز نامہ، روزانہ اخبار۔ جـرائدُ المساء: شام کے اخبار۔ الجـریـدۃ النـاطـقۃ و الـجـریـدۃ السـنمانیۃ: روزانہ خبروں کی فلم نیوز ریل (newsreal)۔ اَجْرُودی: بے داڑھی، بے بالوں والا۔ مِـ[illegible]د جمع مَـجَـارِد: کھرچنے یا چھیلنے کا آلہ (scraper)۔ تـجـرید: چھیلنا، چھلکا اتارنا، بے لباس کرنا، عریاں کرنا، برہنگی، عریانی، محرومی، برطرفی، موقوفی، سامانِ حرب پر پابندی، فوج کی تخفیف، تخفیف اسلحہ (disarmament)، فوجی دستوں کی ترسیل، آزاد کرنا، تنہائی، علیحدگی۔ تـجـریـد من الـسـلاح: نہتا کرنا۔ تَجْرِیْدَۃ جمع تَجْرِیدَات و تَجارِید: فوجی دستہ، فوج کا مہماتی دستہ۔ تـجـرد مـن/علی: سے آزادی، تنہائی، غیر جانبداری، غیر مشروطی، انہماک، دھن، محویت، استغراق، علیحدگی۔ مـجَـرَّد: عریاں، ننگا۔ - عن/من: سے آزاد، خالص، صرف، محض، نرا، سے زیادہ نہیں، تن تنہا، اصلی، عین، ٹھیک حقیقی، وہی، کامل مطلق، قیاسی، خیالی، بے غرض، بے غرضانہ، بے لوث۔ مُـجَـرَّدُ لَهْـوٍ: محض کھیل، صرف دل لگی۔ بـالـعیـنِ المُجَرَّدَۃ: ننگی آنکھ سے۔ بِمُجَرَّدِ ما: جوں ہی، جس وقت، اسی لمحے جب۔

جرذ: ۱۔ جَرَذَ ـجَـرْذًا الجُرْحُ: زخم کا سوج کر گلٹی دار ہو جانا۔ جَـرَّذَ الشـجـرۃَ: درخت کی گانٹھیں چھیلنا۔ الجَرَذ: جانور کی کونچ کا زخم۔

۲۔ أَجْرَذَہُ اِلَیہِ: کو پر مجبور کرنا۔ ــــ ہ: کو نکال دینا، علیحدہ کرنا۔

۳۔ الـجُـرَذ جمع جِرْذان (ح): ایک قسم کا چوہا۔ کہا جاتا ہے: تَـفَـرَّقَت جرذانُ بیتہ: اس کے گھر کے چوہے منتشر ہو گئے۔ مراد: اس کا کھانا پینا کم ہوا یا اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا۔ وہ فقیر ہو گیا ہے۔

الجَرِذ مونث جَرِذَۃ: بہت چوہوں والی جگہ۔ المُجَرَّذ: آزمودہ کار، معاملات میں تجربہ کار۔

○ جَـرْدَل جمع جَـرادِل: بالٹی، ڈولچی، ڈول، چمڑے کا ڈول، گگرا، کاٹھ یا ٹین کا برتن۔

○ جُرَذ جمع جِرذان و جُرذان: بڑا چوہا۔ جِرْذَون جمع جَرَاذین: بڑا چوہا۔

جرز: ۱۔ جَرَزَ ـجَرْزًا: جلدی سے کھا لینا۔ کہا جاتا ہے: جَـرَزَ مـا عـلـی الـمـائدۃ: جو کچھ دستر خوان پر تھا وہ سب چٹ کر گیا۔ جَرُزَ ـجَـرَازَۃً: ایسا کھاؤ اور پیٹو ہونا کہ دستر خوان کو صاف کر کے اٹھے۔ الـجَزُور: وہ پیٹو جو دستر خوان پر کوئی چیز کھائے بغیر نہ چھوڑے، تیزی سے کھانے والا۔

۲۔ جَرَزَ ـجَـرْزًا ہُ الزمانُ: کو زمانہ کا ہلاک کر دینا۔ ـــ ہ: کو کاٹنا، جڑ سے اکھیڑنا، قتل کرنا۔ الـجَـرْزَۃ: ہلاکت۔ کہا جاتا ہے: رمـاہ الـلّٰہ بجزرۃٍ: اللہ اسے ہلاک کرے۔ الـجُـراز: تیز کاٹنے والی تلوار۔ الـمَجْرُوز من الأمکنۃ: وہ جگہ جس کی گھاس کاٹ لی گئی ہو۔

۳۔ جَرَزَ ـجَـرْزًا ہ بالشتم: کو گالی دینا۔ جَارَزَ جِراَزًا و مُجَارَزَۃً ہ: سے گالی کے مشابہ خوش طبعی کرنا۔ تَجَارَزَ القومُ: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔

۴۔ جَـرِزَ ـجَـرَزًا تِ الارضُ: زمین کا بنجر ہونا صفت جارِزَۃ جمع جَوَارِز۔ أُجْرِزَ المکانُ: جگہ کا قحط زدہ ہونا صفت: مِجْراز۔ - البعیرُ: اونٹ کا دبلا ہونا۔ الـجُرُز و الـجَرَز و الـجُرْز جمع أَجْـرَاز من الاراضی: نباتات نہ اگانے والی زمین، گھاس چری ہوئی زمین۔ کہا جاتا ہے: ارضٌ جَـرُزٌ و ارضٌ أَجْـرَازٌ: جس طرح ارضون اجراز کہا جاتا ہے۔ (نباتات نہ اگانے والی یا گھاس چری زمین یا زمینیں)۔ الجَرَز: قحط سالی کا سال، قحط کا سال۔

۵۔ الجُرْز جمع أَجْرَاز و جِرَزَۃ: لوہے یا چاندی کا ستون یا چھڑی۔ الـجِـرْز: عورتوں کا لباس۔ الـجَـرَز جمع أَجْرَازٌ: اونٹ کی پشت کا گوشت، انسان کا سینہ، جسم۔ کہا جاتا ہے: طوت الحیّۃُ أَجْرَازَها: سانپ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ طوی فلانٌ أَجْرَازَہ: فلاں آدمی نے سستی کی۔ الجُرْزَۃ جمع جُرَز: گٹھا، بنڈل۔

جرس: ۱۔ جَرَسَ ـجَرْسًا: بولنا، آواز سنانا۔ ـــــ الـکـلامَ: کلام کو راگ یا ترنم سے پڑھنا۔ أَجْرَسَ الحادی: حدی گانا۔ ـــ الطائِرُ: پرندہ کی اڑان کی آواز سنائی دینا۔ ـــ الجَرَسَ: گھنٹی بجانا۔ ـــ و انجرس الحلی: زیور کی جھنکار سنانا، [illegible] بجنا۔

تَجَرَّسَ: بولنا، گفتگو کرنا، نغمہ سرائی کرنا۔ الـجِرْس و الجَرْس جمع أَجْرَاس: آواز، پست آواز۔ الجَرَس جمع أَجْـراس: گھنٹی، گھڑیال۔ ذات الأَجْـرَاس: زہریلا سانپ جس کی آواز گھنٹی جیسی ہوتی ہے۔ جُـرَیْس (ن): سفید یا بنفشی رنگ کے گھنٹیوں کی شکل کے پھولوں والا خوبصورت پودا۔ پھول سال بہ سال لگتے ہیں یا سدا بہار ہوتے ہیں۔ کرۂ ارض کے نصف شمالی میں پایا جاتا ہے اور مشرق وسطی میں بکثرت ہوتا ہے۔ اس کی بعض قسمیں آرائش کے لئے کاشت کی جاتی ہیں۔

۲۔ جَرَسَ ـجَرْسًا الشیءَ: کو زبان سے چاٹنا۔

۳۔ جَرَّسَ بِهِم: کو بدنام کرنا، عام لوگ جَرَّصهم کہتے ہیں۔ الـجُـرْسَۃ: رسوائی، بدنامی، ہتک عزت۔ عوام کے سامنے بے نقابی، فضیحت، سکینڈل موجب رسوائی۔

۴۔ جَـرَّسَ ہ الـدهـرُ: زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنا دینا۔ الـمُجَرَّس: تجربہ کار۔ کہا جاتا ہے: نـاقۃ مُجَرَّسۃ: سدھائی ہوئی اونٹنی۔

۵۔ اِجْتَرَسَ المال: مال کمانا۔

۶۔ الجَرْس: کسی شئے کا حصہ۔ کہا جاتا ہے: مضی جرسٌ من اللیل: رات کا ایک حصہ گذر گیا۔ الجِرْس جمع أَجْراس: اصل۔ کہا جاتا ہے: ہو من خیرِ جِرْسٍ: وہ شریف الاصل ہے۔ الـجَـارِسۃ جمع جَـوَارِس: گھاس کھانے والا کیڑا۔ الجَوَارِس: شہد کی مکھیاں۔

○ جَرَسَ ـجَرْسًا: (گھنٹی) بجنا، ماتمی جرس بجنا، آواز نکالنا، گونجنا۔ جَـــرَّسَ ہ: کو تجربہ کار بنانا، کو سخت آزمائشوں سے عادی بنانا، خوگر کر لینا، سختی سے آزما کر دیکھنا (زمانہ، حوادث کا)۔ ـــ ب: کو مشتبہ بنانا، ذلیل کرنا، کی ذلت کا موجب ہونا، کی ساکھ ختم کرنا، کو بدنام کرنا، بے نقاب کرنا۔ جَرْس و جِرس: آواز، سر۔ جَرَس جمع أَجْراس: گھنٹی۔

○ جِـرْسَایَۃ و جِرْسِیَۃ جمع جِرسِیات: جرسی، اونی سویٹر۔ جِرسِیّ: جرسی کا کپڑا۔

جرش: ۱۔ جَرَشَ ـجَرمشًا الشیءَ: کو رگڑنا، چھیلنا۔ ـــ الحبَّ والقمحَ: دانے اور گیہوں کو دلنا۔ ـــ ت الأفعی أَنیابها: سانپ کا کینچلی سے نکلنے پر آواز سنانا۔ ـــ جَرَّشَ الرأسَ: سر کھجلا کر اس کی بھوسی نکالنا۔ الـجـرش: سانپ کے کینچلی سے نکلتے وقت کی آواز۔ ـــ جُراشۃُ الحبّ: دلا ہوا دانہ، کنگھی کرنے سے سر سے نکلی ہوئی بھوسی۔ الـجَـرِیـش و الـمَجْرُوش: دلیا۔ الجَاروش و الجَارُوشۃ جمع جواریش (حی): ہاتھ کی چکی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ اِجْتَرَشَ الشيءَ: کواچانک لینا۔ لِعیاله: اپنے بال بچوں کے لئے کمانا۔

۳۔ الجَرْش و الجِرْش و الجُرُش و الجُرَش جمع أَجْراش و جُرُوش من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ الجوارِش (ط): جوارش (دواء)۔

○ جَرَشَ ـجَرْشًا ہ: کودلنا، پیسنا، کچلنا، کدوکش پر چھیلنا، رگڑنا۔ جــرش: کدوکش کرنے کی آواز، کھرچنے کی آواز۔ جَریش: روا، دلیا، چوکر بھوسی، دلیا کیا ہوا، کچلا ہوا۔

جرض: ا۔ جَرَضَ ـجَرْضًا ہ: کا گلا گھونٹنا۔ جَرِضَ ـ جَرَضًا: پھندا لگنا۔ (کہا جاتا ہے: هو یَجْرَضُ بنفسه: وہ قریب المرگ ہے)۔ ــ بریقه: غم ورنج کے باعث بدقت تھوک نگلنا۔ ــ رِیقَهُ: تھوک ایک دم نگل لینا۔ کہا جاتا ہے. فلانُ یَجْرَضُ علیك رِیقه غیضًا: فلاں شخص مارے غصے کے تم پر دانت پیتا ہے۔ أَجْرَضَ ہ بریقه: کو اچھو لگنے کا سبب بنا۔ الجَرَض و الجَرِیض: پھندا لگانے والا تھوک۔ اور اسی سے یہ مثل ہے: حال الجریضُ دون القریض: غم ورنج شعر خوانی اور خوشی کے درمیان حائل ہو گیا۔ الجَرِیض جمع جَرْضَی: غم زدہ۔ کہا جاتا ہے: افلتَ فلانٌ جریضًا: فلاں شخص مرنے والا ہے۔ الجَرَّاض و الجِریاض و الجِرآض: بہت غمگین۔

۲۔ الجُرْضُم و الجُراضِم: بہت کھانے والا، پیٹو۔ الجِرْضِم من النوق: موٹی اور فربہ اونٹنی۔ الجِرْضَم: پیٹو، موٹی اور فربہ اونٹنی۔

○ جَرِضَ ـجَرَضًا بریقه: تھوک نگلنے سے اس کا سانس بند ہوا، دم گھٹا، پھندا پڑ گیا، کھانا گلے میں اڑ گیا، وہ اپنا تھوک جوش، غم یا دہشت سے نہ نگل سکا، وہ بہت پریشان تھا، سخت اضطراب کی حالت میں تھا، بہت جذباتی تھا۔ جَرَضَ ـجَرْضًا ہ: کا گلا دبانا، ٹیٹوا دبانا، گلا گھونٹنا۔ أَجْرَضَهُ بریقه: کو دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا، کو اندیشوں سے بھر دینا۔ حَالَ الجریض دُونَ القریض: گلے میں پھندا لگنے نے اسے شاعری سے روک دیا یعنی موت کے سامنے کوئی شخص قافیہ پیمائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔

جرع: ا۔ جَرَعَ ـجَرْعًا و جَرَعًا و اِجْتَرَعَ اِجْتِراعًا الماءَ: پانی یکبارگی پی جانا۔ جَرَّعَ ہ الماءَ: کو پانی گھونٹ گھونٹ کرکے پلانا۔ أَجْرَعَتِ الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ صفت: مُجْرِع جمع مَجَارِع و مَجَارِیع۔ تَجَرَّعَ الماءَ: پانی تھوڑا تھوڑا کرکے پینا۔ ــ الغیظَ: غصہ پی جانا۔ الجُرعَة و الجَرْعَة و الجِرْعة من الماء: گھونٹ۔ الجُرَیعَة: چھوٹا سا گھونٹ، اسی سے یہ ضرب المثل ہے: ما افلتُّ منه إلا بجُرَیعة الذَّقَنْ: میں اس سے نہیں بچا مگر قریب المرگ ہو گیا پھر خلاصی پائی۔ مراد یہ ہے کہ میری جان منہ میں آ گئی اور میں مرنے لگا، لیکن بچ گیا اور چھٹکارا پایا۔

۲۔ الجَرَعَة جمع جَرَع و جِرعَان و الجَرْعاء جمع جَرْعَاوَات و الأجْرَع جمع اَجَارِع: ریت کا ہموار میدان جہاں سبزہ و روئیدگی نہ ہو۔

○ جَرَعَ ـجَرْعًا و جَرِعَ ـجَرَعًا ہ: کو نگلنا، جلدی جلدی کھانا، ہڑپ کرنا، کھا جانا، پی جانا، (مشروب) منہ میں انڈھیلنا، ایک ہی گھونٹ میں پی جانا۔ جَرَّعَ ہ ہ: کو کوئی چیز نگلوانا یا پلانا۔ تَجَرَّعَ ہ: کو پینا۔ اِجْتَرَعَ ہ: کو نگلنا، پی جانا، بمشکل ضبط کرنا۔ جُرْعَة و جَرْعَة جمع جُرَع: گھونٹ، پینے والی دوا کی خوراک، دوا کی خوراک (dose)۔

جرف: ا۔ جَرَفَ ـجَرْفًا و جَرَّفَ و تَجَرَّفَ و اِجْتَرَفَ الطینَ: پھاوڑہ یا بیلچہ سے مٹی کھودنا یا کھرچنا۔ ــ الشیءَ: پوری چیز یا اس کا اکثر حصہ لیجانا۔ أَجْرَفَ المکانُ: کسی جگہ کا سیلاب زدہ ہونا۔ الجُرُف جمع جِرَفَة و الجُرُف جمع أَجْرُف: دریا کا کنارہ جسے پانی نے ڈھا کر کھوکھلا کر دیا ہو۔ اور اسی سے ہے یہ قول: فلانٌ یبنی علی جرفٍ هارٍ لایدری مالیلٌ من نهارٍ: فلاں شخص دریا کے ڈھینے والے کنارہ پر مکان بناتا ہے اور اسے دن رات کی تمیز نہیں۔ الجراف من السیل: ہر چیز کو بہا لیجانے والا سیلاب۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ جُرافٌ: تمام کھانا ہڑپ کر جانے والا آدمی ــــ و الجِراف: ایک قسم کا پیمانہ۔ الجارِف (فا): طاعون۔ ہمہ گیر تباہی مچانے والی موت، آفت (مجازاً)۔ المِجْرَف و المِجْرَفَة (حی): جھاڑو، بیلچہ، پھاوڑہ۔ الجَرَّاف: بہت تیزی سے بہا لیجانے والا۔ الجارُوف مونث جاروفة: بہت تیزی سے بہا لیجانے والا، منحوس، سب کھانا ہڑپ کرنے والا پیٹو۔ المُجَرَّف و المُجْتَرف: وہ غریب جس کو انقلابِ زمانہ نے مال و متاع سے تہی دست کر دیا ہو۔

۲۔ أَجْرَف الراعی: چرواہے کا اونٹوں کو گنجان گھاس چرانا۔ الجَرْف: گنجان گھاس، اونٹ پر لگا ہوا داغ؛ مویشی، سونے چاندی وغیرہ پر مشتمل مال، سرسبزی۔

۳۔ جَرَفَ ہ: کو پچھاڑنا۔ ــ الشیءَ [illegible] کمانا۔

○ جَرَف ـجَرْفًا و اِجْتَرَف ہ: کو بہا لیجانا، زور سے لیجانا، کو پھاوڑے وغیرہ سے ہٹانا، کو دور کرنا، ساتھ لیجانا۔ اِنْجَرَفَ: بہہ جانا، دور چلے جانا۔ جُرْف و جُرُف جمع جُرُوف و اجراف: نیچے سے کٹا ہوا کنارا یا ساحل، کھڑی چٹان، سیدھی ڈھلان، دریا یا ساحل کے ساتھ کھڑی چٹان۔ جرفٌ جلیدی: برفانی تودہ۔ جَرَّافَة جمع جَرَّافات و جَوَارِیف: جیلی، کریدنی، سہاگہ۔ مَجْرَف جمع مَجارِف: تیز دھارا، تیز لہر۔ مِجْرَفة: بیلچہ، کرچھا، کفچہ، کدال، گہرا کھرپا۔ مِجْرَاف جمع مَجارِیف: بیلچہ، کرچھا، کفچہ۔ جَارِف: تند و پرشور (دریا، نالہ، پہاڑی ندی) طوفانی، بے قابو (جذبات و احساسات)۔

○ الجَرْکَس: شمال مغربی قفقاس اور بحر اسود کے مشرقی ساحل پر بسنے والے لوگ، جن کی اغلبیت ترکی، شام اور اردن ہجرت کر گئی تھی۔ جَرْکَسِی جمع جَرَاکِسة: جرکسی یا شرکسی (صفت و اسم)۔

جرل: ا۔ جَرِلَ ـجَرَلاً المکانُ: جگہ کا سخت اور کرخت ہونا۔ الجَرَل جمع أَجْرَال: کھردری زمین، بہت پتھروں والا (علاقہ)۔ الجَرْوَل جمع جَرَاوِل: پتھریلی زمین۔

۲۔ الجِریال و الجِرْیالَة: شراب، شراب کا رنگ۔

جرم: ا۔ جَرَمَ ـجَرْمًا الشیءَ: کو کاٹنا۔ ــ الناقةَ: اونٹنی کی اون کترنا۔ جَرَّمَ ہ: کو کاٹنا۔ الجریمة من الأشجار: کٹا ہوا درخت۔

۲۔ جَرَمَ ـجَرْمًا و جَرَمًا النخلَ: کھجوریں توڑنا۔ جَرِمَ ـجَرَمًا: گری ہوئی کھجوریں کھانے لگنا۔ الجَرَام و الجُرام و الجَرِیم: خشک کھجور۔ جُرامة النخل: توڑتے وقت گرنے والی کھجوریں۔ الجَرِیمة: گٹھلی۔

۳۔ جَرَمَ ـجَرْمًا الشیءَ: کو پورا کرنا۔ تَجَرَّمَ الزمانُ او الشتاءُ: زمانے یا جاڑے کا گزر جانا۔ مُجَرَّم: پورا، کامل۔ کہا جاتا ہے: عامٌ مُجَرَّمٌ: پورا سال، کامل سال۔

۴۔ جَرَمَ ـجَرْمًا و اِجْتَرَمَ لأهْلِه: اپنے اہل و عیال کے لئے کمانا۔

۵۔ جَرَمَ ـجَرِیمَةً و أَجْرَمَ و اِجْتَرَمَ الیه و علیه: سے گناہ کرنا۔ جَرُمَ ـجَرِیمَةً: بڑے جرم والا ہونا۔ جَرَّمَ ہ و تَجَرَّمَ علیه: پر جرم کا الزام لگانا۔ الجَرم و الجُرْم جمع جُرُوم و أجْرام: غلطی، گناہ۔ کہا جاتا ہے: لا جَرَمَ و لاجُرْمَ: ضروری، یقینی، ناگزیر، کبھی قسم کے معنی دیتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: لاجَــرَمَ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لَأَفْعَلَنَّ: قسم خدا کی میں ایسا کر کے رہوں گا۔
الجَرِیم: مونث جَرِیمَة جمع جِرام: گنہگار۔
الجَرِیمَة: جرم، گناہ۔
۶۔ جَرِمَ ـَ جَرَمًا لونُه: رنگ کا صاف ہونا۔ الجِرم جمع أجْرام و جُرُم و جُرُوم: رنگ۔
۷۔ الجَرْم جمع جُرُوم: چھوٹی کشتی، ڈونگا، سخت گرم زمین۔ و الجُرُوم من البلاد: سخت گرم ممالک اس کے مقابل الصُّرُود ہے، جس کا معنی سرد ممالک ہے۔
الجِرم جمع أجرام و جُرُم و جُرُوم (فلک): ستارہ جانور وغیرہ کا جسم۔ الجَرِیم مونث جَرِیمَة جمع جِرام: بڑے جسم والا۔
۸۔ جَرمَزَ و اِجْرَمَّزَ الرجلُ: سکڑنا، سمٹنا، بھاگنا، پیچھے ہٹنا، جواب میں غلطی کرنا۔ الجَرامِیز من الحیوان: جانور کی ٹانگیں۔ کہا جاتا ہے ضَمَّ الثورُ جَرامِیزَهٗ: بیل نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں۔ اَخَذَهٗ بجَرامِیزِهٖ: اس نے اس کا سب کچھ لے لیا۔
۹۔ الجُرمُوق: موزہ، موزہ کے اوپر پہنا جانے والا بڑا موزہ (فارسی لفظ) عام لوگ اسے اکالوش کہتے ہیں۔
○ جَرَمَ ـِ جَرْمًا اللحمَ: گوشت سے ہڈیاں جدا کرنا۔ ـــ علی/الی: کے خلاف جرم یا سخت ظلم کا ارتکاب کرنا، کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، کے خلاف ارتکاب گناہ کرنا، پر ظلم کرنا، کو نقصان پہنچانا۔ جَرَّمَهٗ: کو ملزم قرار دینا، پر جرم کا الزام لگانا۔ اَجْرَمَ علی/الی: کے خلاف جرم یا گناہ کا ارتکاب کرنا، پر ظلم کرنا، کو نقصان پہنچانا۔ اِجْتَرَمَ: بمعنی أجْرَمَ۔
جَرْم جمع جُرُوم: لمبے، چپٹے پیندے والا، بجرا، سامان اتارنے کی کشتی۔ جِرْم جمع أجْرام و جُرُوم: جسم، ڈھیر، بیشتر حصہ، حجم، جسامت (جسم کی)۔ الاجرام الفَلَكِيَّة: ستارے، اجرام فلکیہ۔ جُرْم جمع أجْرام و جُرُوم: جرم، گناہ، قصور۔ لاجَرَمَ: یقیناً، لازماً، قطعاً، بے شک۔ جَرِیم: بے ڈول، ضخیم، بہت بڑا، بہت وسیع، طول طویل، بڑے سائز کا۔ جَرِیمَة جمع جَرائم: جرم، گناہ، قصور۔ جریمة كُبرىٰ یا عُظمیٰ: مستوجب قتل جرم۔ قانونُ الجَرائم: تعزیری ضابطہ (قانون)۔ إجْرام: جرم، سزا کا مستوجب ہونا، لائق تعزیر ہونا، خطا، قصور، تقصیر، گناہ۔
إجْرامي: مجرمانہ، بجرم۔ لَحمٌ مَجْرُوم: ران یا پٹھے کا گوشت، مچھلی کا قتلا۔ سَنَةٌ مُجَرَّمَة: پورا سال۔ مُجْرِم: مجرمانہ جمع مجرمون: مجرم، گنہگار، خطا کار۔ مُجْرِم عائدٌ: وہ مجرم جو تائب ہو کر پھر جرم کا ارتکاب کرے۔ جَرامِز و جَرامِیز: اعضاء ٹانگیں۔ ضَمَّ جَرامِیزَهٗ: وہ فوراً چلا گیا، وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔
○ الجَرْمان: جرمن قبائل۔ جَرْمانی: جرمنی، جرمن کا۔

جرن: ۱۔ جَرَنَ ـُ جُرُونًا علی الأمر: کا عادی ہونا، میں تجربہ کار ہونا، کی تربیت پانا (کہا جاتا ہے جَرَنَتْ یدہ علی العمل: اس کا ہاتھ کام میں تجربہ کار ہوگیا)۔ ـــ الثوبُ: نرم و خستہ ہونا، بوسیدہ ہونا۔ الجارِن من المتاع: مستعمل و بوسیدہ سامان، مٹے ہوئے نشانات والا راستہ۔ سِقاءٌ جارِنٌ: سوکھی اور سخت چڑے والی مشک۔ الجارِنَة جمع جَوارِن و جارِنات من الدُّرُوع: نرم زرہ۔ المُجَرَّن من السِّیاط: نرم اور چکنا کوڑا۔
۲۔ جَرَنَ ـُ جَرْنًا الحبَّ: غلہ پیسنا۔ أجْرَنَ الحبَّ: غلہ کو کھلیان میں جمع کرنا ـــ التَّمْرَ: کھجوریں خشک کرنے کی جگہ میں جمع کرنا۔ اِجْتَرَنَ: کھلیان بنانا۔
الجُرْن و الجَرِین جمع جُرُن: کھلیان، کھجوروں وغیرہ کی سکھانے کی جگہ۔ الجُرْن جمع أجْران و جِران: پتھر کا تسلا، ہاون، کونڈی، کھرل، اوکھلی۔
المِجْرَن: کھلیان۔
۳۔ الجارِن: سانپ کا بچہ۔ الجِران جمع جُرُن و أجْرِنَة من البعیر: اونٹ کی گردن کا سامنے کا حصہ۔ کہا جاتا ہے أَلْقَی البعیرُ جِرانَهٗ: اونٹ بیٹھ گیا۔ أَلْقَی فلانٌ علی هذا الأمر جِرانَهٗ: فلاں شخص اس امر کا خوگر و عادی ہو گیا۔ ضَرَبَ الاسلام بجِرانِهٖ: اسلام نے اپنے قدم جما لئے۔ ضَرَبَ اللیل بجِرانِه: رات آگئی۔ أَلْقَی علیه جِرانَهٗ: اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ المِجْرَن من الرجال: پیٹو، بہت کھانے والا۔
○ جُرْن المعمودیة: اصطباغی پانی کا برتن، بپتسمہ کے پانی کا برتن۔ ضَرَبَ بجِرانه: قدم جمانا، جڑ پکڑنا، مستحکم ہونا۔ أَلْقَی علیه جِرانه: تندہی سے کوئی کام کرنا، سے ہم آہنگ ہونا، کا عادی و خوگر ہونا۔
○ جُرْنال جمع جَرانِیل: جرنل، اخبار، روزنامچہ، روزانہ، ہفتہ وار، ماہوار، سہ ماہی، ششماہی سالانہ اخبار یا رسالہ۔

جرہ: جَرْهَدَ و اِجْرَهَدَّ فی السیر: تیز چلنا۔
الجَرْهَد و الجُرْهُد: چست چلنے والا۔

جرا: أَجْرَی اجراءً ت الكلبةُ: کتیا کا پلوں والی ہونا یا پلوں کا اس کے ساتھ ہونا۔ الجَرْوُ (بتثلیث الجیم) جمع جِراء و أَجْرٍ و جمع الجمع أَجْرِیَة: ہر [illegible] شیر کے بچے کے لئے مستعمل ہے۔ الجَرْوَة (بتثلیث الجیم): جرو کا مونث۔ کہا جاتا ہے: ضرب علی الامر جِرْوَتَهٗ: وہ اس کام کا عادی ہو گیا یا اس پر صبر و استقلال دکھایا۔ ضرب جِرْوَتَه عنه: اس نے اس پر صبر کر لیا۔ کلبةٌ مُجْرٍ و مُجْرِیَة: پلوں والی کتیا، کتیا جس کے ساتھ پلے ہوں۔
○ جَرْو و جِرْو و جُرْو جمع أَجْرٍ و جِراء و أجْراء و أجْرِیَة: کتے کا پلا، شیر، بھیڑیے، چیتے وغیرہ کا بچہ، ریچھ یا کسی اور درندے کا بچہ۔
○ جَرْوَة: پارہ درجن۔

جری: ۱۔ جَرَی ـِ جَرْیًا و جَرَیانًا و جِرْیَةً الماءُ: پانی کا بہنا۔ کہا جاتا ہے نَهرٌ سریعُ الجِرْیَة: تیز بہنے والا دریا۔ جَرَّی و أَجْرَی الماءَ: پانی بہانا۔
الجاری (فا): جو خشک نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نهرٌ جارٍ: دریا جو خشک نہ ہو۔ الجارِیَة جمع جارِیات و جَوارٍ: جاری کا مونث۔ المَجْرَی جمع مَجارٍ: پانی بہنے کی جگہ۔
۲۔ جَرَی ـِ جَرْیًا و جَرَیانًا و جِرْیَةً الفرسُ و نحوه: گھوڑے وغیرہ کا دوڑنا۔ اِستَجْرَی فلانًا: کسی سے چلنے کی خواہش کرنا۔ الجارِیَة جمع جارِیات و جَوارٍ: لونڈی، لڑکی، بچی، باندی۔ الجَرایَة و الجُراء و الجِراء: شباب، جوانی۔ کہا جاتا ہے: جاریة بیِّنةُ الجَرایة: نمایاں شباب والی لونڈی۔
الجَرِیّ جمع أجْرِیاء: مزدور۔
۳۔ جری ـِ جَرْیًا و جَرَیانًا و جِرْیَةً: چلنا، گزرنا۔
جاراه و تجاریا: کسی کے ساتھ چلنا، ساتھ ساتھ چلنا، (دو شخصوں کا)۔ کہا جاتا ہے الدین و الرهن یتجاریان: قرض و رہن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
الجاری (فی المکاتبات): رواں۔ ہم کہتے ہیں: الشهر الجاری: ماہ رواں۔ الجارِیَة جمع جارِیات و جوارٍ: کشتی، سورج، سانپ۔ المَجْرَی جمع مجارٍ: گذرگاہ۔ مَجْرَی الشمس: سورج کی گذرگاہ۔ الإجْرِیّا و الإجْرِیاء: چلنے کا طریقہ، افتاد طبع، طبیعت۔ کہا جاتا ہے: جری علی اجریّاه و إجْرِیائه: وہ اپنی افتاد طبع کے مطابق چلا۔
۴۔ جَرَی ـِ جَرْیًا و جَرَیانًا و جِرْیَةً الأمرُ: کسی معاملہ کا وقوع پذیر ہونا۔ أَجْرَی القِصاصَ: قصاص لینا۔ الجَرایَة: وظیفہ۔ الماجَرَیات: حوادث، واقعات، اس کی اصل ماجَرَی ہے۔ کہا جاتا ہے: کانت بینهم مناظرات و ماجریات یطول

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شـرحها: ان کے درمیان بحثیں اور واقعات ہوئے جن کی تشریح طویل ہے۔

۵۔جَرَى ـجَرْيًا و جَرَيَانًا و جِرْيَةً إلى الشيء: کا قصد کرنا۔أجرى إلى الشيء: کا قصد کرنا۔

۶۔جَـرَّى فلانًا: کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر بھیجنا۔ أَجْرَى الامر إلى فلان: کوئی کام کسی کے سپرد کرنا یا کسی کی طرف منسوب کرنا۔اِسْتَجْرَى فلانًا: کو وکیل بنانا۔الجَرِيّ جمع أَجْرِيَاء: وکیل، ضامن۔ (کہا جاتا ہے هو جَرِيٌّ له: وہ اس کا ضامن ہے)، پیغامبر۔الجِرَايَة و الجَرَايَة: وکالت۔الجَرى: کہا جاتا ہے مِن جَرَاكَ او مِن جَرَائِكَ: تمہاری وجہ سے۔

۷۔أَجْرَى له الحسابَ: کسی کا حساب رجسٹر میں درج کرنا۔ ـــ عليه الحسابَ: کے ذمے کچھ نکالنا۔ الحساب الجارِي (ت): تاجر کا اپنے ایجنٹ کے نام کھولا ہوا کھاتہ۔

۸۔أَجْرَى الكلمةَ: کلمہ کو منصرف کر دینا۔

۹۔أَجْرَى عليه الرزق: کو رزق دینا یا کا رزق مقرر کرنا۔ الجَرَايَة: فوجی کا راشن۔

۱۰۔أَجْـرَى الامرَ: کام کو جاری و نافذ کرنا۔جـاراہ و تـجـاريَا في الامر: سے کسی کام میں متفق ہونا، دونوں کا کسی معاملہ میں اتفاق کرنا۔

۱۱۔الجاري: ترکی خطاطی کی ایک قسم جو اوپر سے نیچے کو لکھا جاتا تھا اور شاہی فرمان کے لئے مستعمل تھا۔الجِرِّيّ و الـجِـرِّيث (ح): لمبی دریائی مچھلی جسے مصر میں ثعبان الماء (بام مچھلی) کہا جاتا ہے۔ اس میں سر اور ریڑھ کی ہڈی کے سوا کوئی ہڈی نہیں ہوتی۔ حنکلیس کے نام سے معروف ہے۔الـجِـرِّيَة (ع ا): پوٹا (پرندے کا)۔

○ جَرَى ـجَرْيًا: (پانی) کا بہنا، (کا) دریا بہنا، (پانی کی دھار) گرنا، دوڑنا، جلدی کرنا، آگے بڑھنا، دوڑ پڑنا، واقع ہونا، (کام) کا جاری رہنا، ہو رہا ہونا ـــ لِ: پر پڑنا، کو پیش آنا ـــ: گردش میں ہونا، پھیلنا، رائج الوقت ہونا، رائج ہونا، رواں ہونا، تازہ یا حالیہ ہونا، چالو ہونا ـــ إلى: کی راہ لینا، کی طرف جانا، کی طرف بڑھنا ـــ على: کے مطابق کرتے رہنا ـــ مع: کے پیچھے ہونا، آنا یا کے بعد ہونا، (خواہش وغیرہ) کے آگے جھک جانا، (کو) مان جانا ـــ ب: کا لازم یا قدرتی نتیجہ ہونا ـــ وراء: کے پیچھے ہونا، کے پیچھے دوڑنا، کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔جـرى لـه حـديث مع: اس نے کے ساتھ بات چیت کی۔

جَرَى مَجْراهُ: اس جیسا راستہ اختیار کرنا، اس جیسے راستہ پر چلنا، اس جیسے طریقے پر عمل کرنا، کا مماثل یا مشابہ ہونا۔جَرَى مِنهُ الشيءُ مَجْرَى الدَمِ: یہ اس کی دوسری فطرت بن چکی تھی۔جَـرَى عَلَى الأَلْسُن: (افواہ) کا پھیلنا، گردش کرنا۔جَرَى على كلِّ لِسانٍ: ہر ایک کی زبان پر ہونا، ہر ایک کے ہونٹوں پر ہونا۔جـرى علي خِطَّة: منصوبہ پر عمل کرنا۔مايجرى عليه العملُ: طریقہ جس سے کام لیا جاتا ہے یا جس سے نبٹا جاتا ہے۔ جو عام دستور ہو۔ جرى به العملُ: مؤثر ہونا، چالو ہونا، نافذ العمل ہونا، ضابطہ کے مطابق ہونا، پر عام طور پر عمل کیا جانا (قانون، رواج کا)۔جـرت العادةُ ب: دستور کے موافق ہونا، حسب معمول ہونا، عام دستور ہونا، عام قاعدہ ہونا، روزمرہ کی چیز ہونا، دستور ہونا۔جـرى بالعادة على: کو حسب معمول کرنا، کو کرنے کا عادی ہونا۔جَرَتْ بذَلِكَ عَادَتُهم: یہ ان کی عادت تھی۔ جَـرَّى: دوڑانا۔ جَرَّى رِيقَهُ: کسی کے منہ میں پانی بھر آنے کا باعث بننا (کھانے کی خوشبو) سے منہ میں بھر آنا)۔جـاراہ في: کسی معاملہ میں کسی سے اتفاق کرنا، متفق ہونا، ہم آہنگ ہونا ـــ ہ: کے برابر چلنا، کا ساتھ دینا، کی رفتار سے چلنا۔ (ذہنی طور پر بھی) ـــ ہ: کا اتباع کرنے کے قابل ہونا ـــ ہ: کے ساتھ ساتھ جانا، سے رہنمائی حاصل کرنا۔اجْرَى ہ: کو بہانا ـــ ہ/ ہ: کو دوڑانا، کو چالو کرنا ـــ ہ: کو واقع کرنا، کا باعث ہونا، (قوانین، قواعد) بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کو نافذ کرنا، پر سختی سے عمل کرانا، پر عمل درآمد کرانا کو چسپاں کرنا، (کارروائی) کرنا، (منصوبہ) چلانا، چالو کرنا، (منصوبہ) جاری کرنا ـــ ہ ل/على: کو کی طرف موڑنا، کو کوئی چیز عطا کرنا، کو (روپیہ، جائداد) حسب ضابطہ یا رسمی طور پر دینا ـــ ہ على: (جرمانہ وغیرہ) کو کسی پر عائد کرنا، لگانا۔أَجْرَى تجربةً: تجربہ کرنا۔اجْرَى تحقيقًا: تحقیقات کرنا۔أَجْرَى لَهُ اعانةً: کو امدادی رقم دینا۔ أَجْرَاہ مَجْرَى ـ: سے کسی جیسا سلوک کرنا، کو کے برابر درجہ دینا۔جَرْي: رفتار، روش۔جَرْيًا على: کے مطابق۔مِنْ جَرَاكَ و مِن جَرَائِكَ: تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر۔جَـرَّاء: دوڑنے والا، گھوڑ دوڑ کا گھوڑا دوڑانے والا، شرط بدکر دوڑانے والا۔جِرايَة جمع جِرَايات: روزانہ (خوراک)، راشن، تنخواہ۔ عَيْش جِراية: خراب روٹی۔جَرَيان: بہاؤ، رفتار، دھارا۔مَجْرَى جمع مَجَارٍ: راستہ، کی، دریا، نالہ، نالی، پانی کا تیز دھارا یا سیلاب، پائپ لائن، نہر، رودبار، آبنائے، دریا کا راستہ، دریا کی گذرگاہ، گندہ نالہ، بدرو، گندے نالے کے پانی کے نکاس کا نظام، پاور لائن، (برقی) کرنٹ، دریا کا دھارا، لہر، رفتار حالات، گزرنا، ترقی۔مجرى البَول: مثانہ سے پیشاب کے اخراج کی نالی۔مَجارِي التنفس: نظام تنفس۔ مَجْـرَى الهواء: ہوا کی رو، ہوا کا جھونکا، ہوا کی لہر، ہوا کا دھارا۔أَخَـذَ مَـجْـرَاہ: معمول کے مطابق، نشوونما پانا، معمول کے اختتام کی طرف بڑھنا۔ ماجريات (ماجَرى کی جمع): رفتار حالات، واقعات۔ مَـجَـاراة: (کا) ساتھ دینا، (کی) رفتار سے چلنا، (کی) تعمیل۔مُجَاراةً لِ: کی تعمیل میں، کے مطابق۔ اِجراء: (کارروائی) کرنا، عمل میں لانا، نفاذ، عملدرآمد، جمع جراء ات: اقدامات، کارروائی، مقدمہ، نالش۔ اتخذ اجراءات: اقدامات کرنا۔اجراءات قانونية: قانونی اقدام، قانونی کاروائی۔جارٍ: بہتا ہوا، دوڑتا ہوا، دوڑنے والے، بہنے والا، پھیلنے والا، رواں، موجود۔الشهر الجاري: ماہِ رواں، اس ماہ، موجودہ مہینے۔جَارِيَة جمع جَارِيات و جوارٍ: لڑکی، لونڈی، کنیز، دوشیزہ، بن بیاہی عورت جو ملکہ یا شہزدی کی مصاحب ہو، مصاحبہ، نوکرانی، ملازمہ، خادمہ، کشتی، جہاز۔

جزّ: جَزَّ ـجُزُوزًا التمرُ: کھجور کا خشک ہونا۔ الغنمُ او البُرُّ او النخلةُ: بھیڑوں کے بال یا گیہوں یا کھجور کے درخت کا کترنے یا کاٹنے کے وقت پر پہنچنا۔جَزًّا و جَزَّزَ و اجْتَزَ الصوفَ او العشبَ او النخلَ: اون یا گھاس یا کھجور کا درخت کاٹنا، کترنا۔اَجَزَّ الغنمُ او البُرّ او النخلةُ: بمعني: جَزّ الغنم او البُرّ او النخلة۔ ـــ القومُ: قوم کی بھیڑوں کے بال کترے ہوئے ہونا یا ان کی کھیتی کا کٹا ہوا ہونا ـــ التمرُ: کھجور کا خشک ہونا۔اِسْتَجَزَّ الغنمُ او البُرُّ او النخلةُ: بمعنى جَزّ الغنم او البرُّ او النخلة: الجِزَّة جمع جِزَز و جَزَائِز: سال میں بکری کی کتری ہوئی اون۔ (و عند العامة): شہتوت کے پتے جو ریشم کے کیڑوں سے بچ رہیں۔ الجَزَز: استعمال میں نہ لائی ہوئی اون۔الجُزَاز و الجَزَازة: کٹنے کے وقت زمین پر گری ہوئی اون۔ جُزَازٌ من الليل: رات کا ایک حصہ۔الجَزَاز و الجِزاز: کٹائی، کٹائی کا وقت، کاٹنے کا وقت۔ الجَزُوزَة جمع جُزُز من الغنم: وہ بھیڑ جس کی اون کتری جائے۔الجَزِيز: کترا ہوا، کاٹا ہوا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الجَزِیزَة: اون کا گچھا۔الجَزّاز: کترنے یا کاٹنے والا۔المِجَزّ: کترنے یا کاٹنے کا آلہ، قینچی۔

○ جَزّ ـ جَزًّا ہ: کو کاٹنا، کترنا، تراشنا (قینچی سے)، خصوصاً: بھیڑ کو مونڈنا۔جِزَّة جمع جِزَز و جزائِز: مونڈی ہوئی اون، بھیڑ کی اون، پشم۔مِجَزّ: اون مونڈنے کی قینچی۔

جزا: ۱۔جَزَأَ ـ جَزْءًا الشیءَ: کو اجزاء میں تقسیم کرنا، کا ایک جز و لینا۔جَزَّأَ تَجْزِئَةً و تَجْزِیئًا الشیءَ: کو تقسیم کرنا۔تَجَزَّأَ: تقسیم ہونا۔الجَزْء (مص): بعض۔الجُزْء جمع اَجْزَاء و الجَزْء و الجَزَاء: چیز کا ایک حصہ۔الجُزْأَة: برے وغیرہ کا دستہ۔الجُزْئِیّ: جُزْوِی۔الجُزْئِیَة جمع جُزْئِیَات: کلیہ کی ضد۔

۲۔جَزَأَ و تَجَزَّأَ و اِجْتَزَأَ بالشیء: پر اکتفاء کرنا، پر قناعت کرنا۔جَزَّأَهُ بالشیءِ: کو پر اکسانا، کو پر آمادہ کرنا۔کہا جاتا ہے: جَزَّأَ الماشیةَ بالرطب عن الماء: اس نے مویشی کو تر گھاس چرنے پر آمادہ کیا اور مویشی نے پانی کے بجائے سبز گھاس پر اکتفاء کر لیا۔أَجْزَأَه بالشیء: بمعنی جَزَّأَه بالشیء۔ــ عنه: سے بے پروا ہونا۔الجَزْء: کفایت۔کہا جاتا ہے: لك فی هذا غناءٌ و جَزْءٌ: تمہارے لئے بس یہی کافی ہے۔المَجْزَأ والمَجْزَأَة والمُجْزَأ و المُجْزَأَة: چیز کا کافی ہونے والا حصہ، بقدر کفایت حصہ۔کہا جاتا ہے: أَجْزَأَ مَجْزَأَ فلان و مُجْزَأَه و مَجْزَأَتَه و مُجْزَأَتَه: وہ فلاں کا قائم مقام و نائب ہوا۔الجَزِئُ والمُجْزِئ من الطعام: سیر و آسودہ کرنے والا کھانا۔الجَوَازِئ: تر گھاس کھا کر بہت حد تک پانی سے بے نیاز ہو جانے والی نیل گائے۔

○ جَزَأَ و اِجْتَزَأَ ب: پر صابر، صابر شاکر، قانع، مطمئن، یا راضی ہونا۔جَزَّأَ ہ: کو تقسیم کرنا۔تَجَزَّأَ: تقسیم ہونا، علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ــ عن: سے منقسم ہونا، تقسیم پذیر ہونا، سے الگ ہو سکنا، انفعال پذیر ہونا۔جُزْء جمع اَجْزَاء: حصہ، جزو، لازمی جزء، جزو، جزو ترکیب، مشتمل حصہ، کسر، قرآن مجید کا تیسواں حصہ، پارہ۔جُزْئِی: جزوی، معمولی، چھوٹا، غیر اہم۔جُزْئِیًّا: کسی حد تک تھوڑا، ایک حصہ۔جزئیات: تفاصیل، جزئیات، باریکیاں، معمولی چیزیں، ماتحت حصے، (عدالت کے) ڈویژن، سیکشن۔مواد جزئیة: چھوٹے مقدمات۔محاکم جزئیة: سرسری انصاف کی عدالتیں۔حادثه جزئیة: چھوٹا یا معمولی ماجرا، واقعہ۔تَسْوِیة جزئیة: جزوی ادائیگی۔الجزئیات و الکُلِیّات: مخصوص اور عام پہلو، چھوٹے اور بڑے مسائل۔جُزَیْءٌ جمع جُزَیْئَات: ریزہ، ذرہ، سالمہ۔اَجْزَائِی جمع اَجْزَائِیُون: دواساز، دوافروش، عطار، پنساری۔اَجْزَاجِی جمع اجزاجیه: دواساز، دوافروش، عطار، پنساری۔اَجْزَائِیة و اَجْزاخانة: دواؤں کی دکان، عطار خانہ، دواسازی، عطاری۔تجزئة: تقسیم، علیحدگی، جدائی، قطع تعلق، اظہار بیزاری، مدات، اراضی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔قابل لتجزئة: قابل تقسیم۔قابلیة التجزئة: قابل تقسیم ہونا۔تاجرُ التجزئة: پرچون فروش، خوردہ فروش۔

○ جُزْدان و جِزدان جمع جزدانات: بٹوا، توشہ دان۔

جزح: ۱۔جَزَحَ ـ جَزْحًا الرجلُ: اپنے کام کے لئے جانا۔ــ تِ الظباءُ: ہرنیوں کا جھاڑی میں داخل ہونا۔

۲۔جَزَحَ ـ جزحًا الرجلُ: بہت سا عطیہ دینا۔ــ له من المال: کو مال کا کچھ حصہ دینا۔الجَزْح (مص): عطیہ۔

جزد: الجزدان: جزدان، بستہ، کیس، تھیلی (جس میں نقدی رکھی جاتی ہے)۔(ترکی لفظ)۔

جزر: ۱۔جَزَرَ ـ جَزْرًا و جَزَارًا و جِزارًا و اِجْتَزَرَ الشاةَ: بکری ذبح کرنا۔أَجْزَرَ فلانًا: کو بکری ذبح کرنے کے لئے دینا۔تَجَزَّرُوهم و اِجْتَزَرُوهم فی القتال: کو میدان کارزار میں درندوں کی غذا بننے کے لئے چھوڑ دینا۔الجَزْر (مص): ذبح کرنا۔الجَزَر (واحد جَزَرَة): وہ جانور جس کا ذبح کرنا جائز ہو، ذبح کی ہوئی چیز۔جَزَرُ السِباع: وہ گوشت جس کو درندے کھائیں۔کہا جاتا ہے: ترکوهم جَزَرًا: انہوں نے ان کو بیابان میں قتل کر ڈالا۔الجَزُور جمع جُزُر و جَزُورات و جَزَائِر: ذبح کے لئے اونٹنی یا بکری۔الجَزّار و الجَزِیر: ذبح کرنے والا۔الجَزَارَة: ذبح کئے جانے والے جانور کے اطراف جیسے: سری پائے (جنہیں قصاب اپنی اجرت کے طور پر لے لیتا ہے)، قصاب کی اجرت۔الجِزارة: ذبح کرنے کا پیشہ۔المَجْزِر جمع مَجَازِر: بوچڑ خانہ، مذبح، ذبح کرنے کی جگہ، جسے مسلخ بھی کہتے ہیں۔

۲۔جَزَرَ ـ النخلةَ جَزْرًا: کھجور کے درخت کو کاٹنا۔اَجْزَرَ النخلُ: کھجور کے کاٹنے کے وقت کا قریب ہونا۔ــ الشیخُ: بوڑھے کی موت کا وقت قریب پہنچنا۔

۳۔جَزَرَ ـ جَزْرًا الماءُ: پانی کا خشک یا کم ہونا۔ــ البَحْرُ: سمندر کا پیچھے ہٹنا۔الجَزْر: بھاٹا، مد (جوار) کی ضد۔الجَزَر: وہ جگہ جہاں سے مد (جوار) لوٹے۔الجَزِیرَة جمع جَزَائِر و جُزُر و جُزْر: وہ زمین جہاں سے پانی پیچھے ہٹ جائے، زمین جس کے چاروں طرف پانی ہو، جزیرہ۔

۴۔تَجَازَرَا: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔

۵۔الجَزَر والجِزَر (ن): گاجر۔

○ جَزَرَ ـ جَزْرًا: ذبح کرنا۔ــ ہ: جانور، ذبح کرنا۔ــ جَزْرًا: (پانی کا) دھنسنا، کم ہونا، گرنا، بیٹھ جانا، گھٹنا، ختم ہونا، اترنا۔جَزْر: ذبح، ذبح کرنا (سمندر کا) اترنا، بھاٹا۔جَزْرَة: خون کی قربانی۔جَزُور جمع جُزُر: ذبح کیلئے اونٹ۔جَزّار جمع جَزَّارَة و جَزّارُون: قصائی، قصاب۔جَزِیرَة جمع جَزائِر و جُزُر: جزیرہ ٹاپو۔شبهُ جزیرة: جزیرہ نما، خشکی کا وہ حصہ جس کے تین طرف پانی ہو۔الجَزِیرَة: شمال مغربی میسوپوٹامیا Mesopotamia۔الجزائر: الجیریا Algeria۔جزیرة العرب: ملک عرب، عرب جزیرہ نما۔الجزائر الخالِدات: بحر محیط (اٹلانٹک) میں بجانب غرب چھ جزیرے۔کینری جزیرے (the canary Islands)۔الجزیرة الخَضْرَاء: سپین کی جنوب غربی بندرگاہ Algeciras۔جَزَرِی: ٹاپوکا، جزیرہ کا، جزیرے کے مانند پانی سے گھرا ہوا، جزیرہ والوں کا سا تنگ نظر، جمع جزریون: جزیرہ کا باشندہ۔جزیرہ کا رہنے والا۔جَزَائِری جمع جزائریون: الجیری (صفت و اسم)، جزیرہ کا باشندہ۔مَجْزَر جمع مَجَازِر: مذبح، مسلخ، بوچڑ خانہ، کمیلا، خون خرابہ، قتل و غارت، قصائی پنا، خونریزی۔مَجْزَرَة جمع مَجَازِر: خون خرابہ، قتل و غارت، قصائی پنا، خونریزی، قتل عام۔جَزَر (اسم جمع واحد: جَزَرَة): گاجر۔

جزع: ۱۔جَزَعَ ـ جَزْعًا له من ماله جَزْعَةً: کو اپنے مال سے ایک حصہ دینا۔أَجْزَعَ منه جزْعَةً: کا کچھ حصہ باقی چھوڑ دینا۔اِنْجَزَعَ و تَجَزَّعَ: کٹ جانا، ٹوٹ جانا۔اِجْتَزَعَ ہ: کو کاٹنا، توڑنا۔الجِزْعَة و الجُزْعَة جمع جِزَع: تھوڑی چیز، بقیہ۔المُجَزَّع مِن الأحْوَاض: حوض جس میں تھوڑا سا پانی بچا ہو۔الجَزِیعَة جمع جَزَائِع: بھیڑوں کے ریوڑ کا ایک حصہ۔

۲۔جَزِعَ ـ جَزَعًا و جُزُوعًا مِنْه: پر صبر نہ کرکے غم و تکدر کا اظہار کرنا۔ــ علیه: پر شفقت و مہربانی کرنا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے بارے میں پریشانی محسوس کرنا، کے بارے میں خائف ہونا۔ صفت جَزِع و جَازِع و جَزُوع و جَزاع و جَزُوع۔ جَزَّعَ ہ: کا خوف وہراس دور کرنا۔ المِجزَاع جمع مَجَازِیع بہت بے صبرا۔

۳۔ جَزَعَ ۔جَزْعًا الوادیَ: وادی کو عرض میں طے کرنا۔ الجِزْع جمع اَجْزَاع من الوادی: وادی کی وہ جگہ جہاں سے اسے طے کیا جائے۔ محلّہ (جہاں لوگ رہتے ہوں)۔

۴۔ الجُزْع: رہٹ کا دُھرا۔ الجَزْع رہٹ کا دھرا۔ (واحد جُزْعَة) سفید وسیاہ مہرہ۔ الجَزْع جمع أجْزَاع: شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔ الجَازِعَة دو چیزوں کے درمیان رکھا ہوا تختہ جس پر کوئی چیز رکھی جائے۔ الجُزْعَة: چھری کا دستہ۔ المُجَزَّع و المُجَزِّع سفید وسیاہ چیز۔ ۔ من الرُّطَب نیم پختہ کھجور، آدھی پکی کھجور۔

○ جَزِعَ ۔جَزَعًا و جُزُوعًا: متفکر ہونا یا ہوجانا، پریشان ہونا۔ ـــ من: کے بارے میں غمگین ہونا، ناخوش ہونا۔ ـــ علی: کے لئے رنج محسوس کرنا، پر ترس کھانا، کے لئے نوحہ کرنا۔ تَجَزَّعَ ٹوٹ جانا، تڑاک سے ٹوٹ جانا۔ جَزْع سنگ سلیمانی، پتھر جس کی تہوں میں مختلف رنگ ہوں۔ جُزْع دھرا، ڈنڈا، چھڑ، بلی، تیر، مشین کا لمبا دُھرا۔ جَزَع پریشانی، بے چینی، اندیشہ، خوف، خدشہ، تشویش، فکر، روحانی اذیت، انتہائی جسمانی یا ذہنی تکلیف، خوف، ڈر، ہراس، بیم، یاس، اداس، آزردگی، غمگینی۔ جَزِع بے چین، بے صبر، پریشان، مضطرب، خائف، اندیشناک، بے کل، بے قرار۔ جَزُوع و جَازِع بے چین، بے کل، بے قرار، مضطرب، بے صبر، بے تاب، حد سے زیادہ خواہشمند، متفکر، خائف، اندیشناک۔ مُجَزَّع: لہریا، رنگ دار، بوقلموں مختلف رنگوں کے ٹکڑے لگا ہوا، رنگ برنگا۔

جزف: جَزَفَ ۔جَزْفًا و اِجْتَزَفَ الشيءَ: کو بے تولے، بے ناپے اٹکل بیچنا یا خریدنا۔ جَازَفَ مُجَازَفَةً: کی اٹکل اور تخمینہ سے خرید وفروخت کرنا۔ اسی سے ہے: جَازَفَ فی کلامِہ بے تکی اور بے اصولی باتیں کرنا۔ الجِزَاف (جیم کی تثلیث کے ساتھ) و الجَزِیف اٹکل اور تخمینہ کی بیع۔ کہا جاتا ہے: بیعُ جَزِیف و بَیْعٌ جُزَافٌ اٹکل اور تخمینہ کی بیع۔

۲۔ جَازَفَ بنفسہ اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا، جان پر کھیلنا۔

۳۔ الجَزُوف مِنَ الحَوَامِل: ولادت کی حد سے گزرنے والی حاملہ۔ الجَزَّاف شکاری، صیاد۔ المِجزَفَة: مچھلی پکڑنے کا جال۔

○ جَازَفَ: بے سوچے سمجھے، اٹکل پچو سے عمل یا حرکت کرنا، بے شعوری سے کچھ کرنا، قسمت آزمائی کرنا، خطرہ لینا، نفع کی امید پر روپیہ لگانا، سٹہ کا کاروبار کرنا، مبہم بات کرنا، عام پیرائے میں بات کرنا۔ ـــ ب: کو خطرہ میں ڈالنا، کا جوا کھیلنا۔ جَازَفَ بنفسہ: اپنی جان خطرہ میں ڈالنا۔ جَازَفَ بہ فی: (کسی مہم وغیرہ) میں کود پڑنا۔ جُزَاف: کسی چیز کی کوئی مقدار کی خریداری۔ جُزَافًا: بے سوچے سمجھے، اٹکل پچو سے، یونہی، اتفاق سے۔ مُجَازَفَة: احمقانہ بہادری، مہم، طالع آزمائی، جوکھوں کا کام، جوکھوں، خطرہ، بے وقوفی، بے احتیاطی، لاپرواہی، منچلا پن، جلد بازی، بے باکی، اجڈ پن۔ مُجَازِف جلد باز، غیر محتاط، عاقبت نااندیش، لاپرواہ، بے وقوف، جیالا، اجڈ جیالا، جاں باز، من چلا، سورما، جری، اولوالعزم۔

جزل: ۱۔ جَزُلَ ۔جَزَالَةً الشيءُ: موٹا ہونا، بڑا ہونا۔ اِسْتَجْزَلَ ہ: کو موٹا، بڑا یا کسی کلام کو فصیح پانا۔ الجَزْل (مص) موٹا، بڑا۔ الجُزَّال و الجَزِیل بڑی اور بہت چیز۔

۲۔ جَزُلَ ۔جَزَالَةً الرجلُ: صائب الرائے ہونا۔ اِسْتَجْزَلَ رأیَہ: کی رائے کو بہت عمدہ پانا۔ الجَزْل بے غلط رائے والا، عمدہ رائے والا۔

۳۔ جَزُلَ ۔جَزَالَةً المنطقُ: منطق فصیح ہونا۔ صفت: جَزْل جمع جِزَال و جَزِیل جمع أجْزَال و جِزَال۔ الجَزْل عمدہ لفظ۔

۴۔ جَزَلَ ۔جَزْلًا الشيءَ: کے دو ٹکڑے کرنا۔ ۔ القَتَبُ غارِبَ البعیر: کجاوے کا اونٹ کی پیٹھ اور گردن کو کاٹ دینا، زخمی کردینا۔ الجُزَّال و الجِزَال کھجور کے پھل اتارنا۔ کہا جاتا ہے: ہذا زمنُ الجزال یہ کھجور کے پھل اتارنے کا زمانہ ہے۔

۵۔ أجْزَلَ العطاءَ و فی العطاء و من العطاء لفلان و علیہ: کو بہت بخشش دینا۔ اِسْتَجْزَلَ ہ: کو بہت فیاض پانا۔ الجَزْل بہت فیاض، بہت۔ الجَزَّال و الجَزِیل بہت چیز۔

۶۔ الجَوْزَل جمع جَوَازِل کبوتر کا بچہ۔

○ جَزُلَ ۔جَزَالَةً: بہت ہونا، بڑا ہونا، وافر ہونا، فراوان ہونا، کثیر ہونا، کافی ہونا۔ أجْزَلَ لہُ العطاءَ: کو فیاضی، فراخ دلی اور رواداری سے دینا۔ اِجْتَزَلَ مختصر نویسی کرنا۔ [illegible] جَزِیل [illegible] کثیر، بہت، وافر، خاص، واضح اور فصیح (اسلوب، طرز، انداز)۔ جَزْل الرای صحیح اور بے غلط بصیرت والا۔ شکرہ شکرا جزیلا: اس نے اس کا فراخدلانہ شکریہ ادا کیا۔ شکرا جزیلا: بہت بہت شکریہ۔ جَزْلَة: ٹکڑا۔ جَزَالَة: بہتات، افراط، کثرت، وفور، زیادتی، (اسلوب کی) پاکیزگی۔ مُجْتَزِل: مختصر نویس، شینوگرافر۔

○ جُزْلان: جزدان (دیکھو جزدان)۔

جزم: ۱۔ جَزَمَ ۔جَزْمًا ہ: کو کاٹنا۔ ـــ الأمرَ: کسی امر کا قطعی فیصلہ کرنا۔ (آپ کہتے ہیں: امرتُہ أمرًا جَزْمًا: میں نے اس کو قطعی حکم دیا۔ ہذا حکمٌ جَزْمٌ: یہ لازمی اور قطعی حکم (فیصلہ، رائے) ہے۔) ـــ علی الأمر: کا پختہ ارادہ کرلینا۔ ـــ الیمینَ: قسم پوری کرنا۔ (آپ کہتے ہیں: حلف یمینًا جَزْمًا: اس نے ایسی قسم کا حلف اٹھایا جو پوری کی جانے والی تھی)۔ ـــ علیہ الشيءَ: کسی چیز کو کسی پر واجب ٹھہرانا۔ ۔ الحرفَ حرف کو ساکن کرنا، جزم دینا۔ ۔ الفعلَ: فعل کے آخری حرف کو اگر صحیح ہے ساکن کرنا، یا حرف علت یا تثنیہ وجمع سے نون ساقط کرنا۔ ـــ و جَزَّمَ علیہ: پر ساکت وخاموش ہونا۔ ۔ عنہ: کے بارے میں بزدل اور عاجز ہونا۔ تَجَزَّمَ العُودُ لکڑی کا پھٹنا۔ اِنْجَزَمَ الحرفُ: ساکن ہونا۔ ۔ العظمُ: ہڈی ٹوٹنا، ٹوٹ جانا۔ الجَزْمُ من الأقلام: برابر قط والا قلم۔ الجَازِم جمع جَوَازِم (فا): جزم دینے والا کلمہ۔ جیسے لَمْ وغیرہ۔ الجِزْمَة: بھیڑوں کے ریوڑ کا حصہ۔

۲۔ جَزَمَ و اِجْتَزَمَ النخلةَ: کھجور کے درخت کے پھلوں کا اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا۔

۳۔ جَزَمَ ۔الرجلُ: دن رات میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھانا۔ الجَزْمَة: دن میں ایک مرتبہ کا کھانا۔

۴۔ جَزَمَ و جَزَّمَ القربةَ: مشک کو بھرنا۔ الجَازِم جمع جَوَازِم: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: سقاءٌ جازمٌ: بھری ہوئی مشک۔ بعیرٌ جازمٌ: سیراب اونٹ۔ مِجْزَم: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: سقاءٌ او إناءٌ مجزمٌ بھری ہوئی مشک، بھرا ہوا برتن۔

۵۔ الجَزْمُ حصہ۔ ـــ من الأمور قبل از وقت آجانے والا معاملہ۔ الجُزْمَة جوتا جو ٹخنے تک ہو، (ترکی لفظ)۔

○ جَزَمَ ۔جَزْمًا فیصلہ کرنا، رائے قائم کرنا۔ ۔ ہ فعل مضارع کے آخری حرف کو جزم دینا، ساکن کرنا۔ ـــ ہ: کو کاٹ ڈالنا، کاٹ کر چھوٹا کرنا، کو قینچی سے کاٹنا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تراشنا، کا فیصلہ کرنا، کو طے کرنا۔ ـــ ب: کے بارے میں پورا یقین ہونا، مطلقاً پُر یقین ہونا، کو مصدقہ طور پر کہنا۔ ـ علی: کا مصمم ارادہ کرنا، کو کرنے کا فیصلہ کرنا، کا پکا ارادہ کرنا۔ ـ ہ علی: کو پر عائد کرنا، کو کے گلے منڈھنا، کو پر لازمی، لازم، واجب یا فرض کرنا۔ جَزْم: کاٹنا، تراشنا، فیصلہ، عزم، ارادہ، قصد۔ علامة الجزم، جزمة: جزم۔ جَزْمَة: جزم (ْ) عربی میں (د)۔ جَازِم: فیصلہ کن، قطعی، غیر مبہم، ناطق، آخری، ـ ب: کا پختہ قائل، پُر یقین۔ مَجْزُوم: کٹا ہوا، تراشا ہوا، قینچی سے کٹا ہوا، فیصلہ شدہ، طے شدہ، ساکن (حرف)۔ مُنْجزِم: ساکن (حرف)۔ جَزْمَة جمع جَزْمات و جِزَم: جوتوں کا جوڑا، ٹخنہ تک جوتوں کا جوڑا، بوٹ، شوز۔ جزمة بر باط: تسمے والے بوٹ۔ جِزْمَةٌ لَمَّاعَةٌ: چمکدار چمڑے کے جوتے۔ جَزامِجی و جِزَماتِی جمع جزماتیه: جوتے بنانے والا۔

جزی ۱۔ جَزَی ـ جَزاءً الرجلَ بكذا و على كذا: کو کا بدلہ دینا۔ جَازَی مُجَازَاةً و جِزَاءً ہ: کو بدلہ دینا۔ اِجْتَزَاہ: سے بدلہ مانگنا۔ الجزَاء و الجَزَاء و الجَازِيَة و المُجَازاة: کسی چیز کا بدلہ۔ الجازية کی جمع الجَوَازِی ہے۔ کہا جاتا ہے: جَزَتْكَ الجَوَازِی: تم نے اپنے کئے کا بدلہ پالیا۔

۲۔ جَزَی فلانًا حقَّهُ: کا حق ادا کرنا۔ تَجَازَی تَجَازِيًا دینَهُ و بِدَيْنِه على فلان: سے اپنا قرضہ طلب کرنا، قرض کا تقاضا کرنا۔

۳۔ جَزَی ـ الشیءُ ہ: کسی شے کا کسی کے لئے کافی ہونا۔ ـــ و أَجْزَی الامرُ منه و عنه: کا قائم مقام ہونا، کے لئے کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے: يجزی هذا من او عن ذاك: یہ اس کے قائم مقام ہے۔ یہ اس کے لئے کافی ہے۔ الجِزْيَة جمع جِزًی و جِزْیٌ و جِزَاء: ذمی سے لیا جانے والا ٹیکس: مین کا خراج۔ الأَجْزَی: زیادہ کافی، آپ کہتے ہیں: اللحمُ السمينُ اجزى من المَهْزُول: موٹا تیار گوشت دبلے گوشت سے بہتر ہے۔

○ جَزَی ـ جَزَاءً ہ ب/على: کو کا بدلہ دینا، کے نقصان کی تلافی کرنا، کو کا معاوضہ دینا، کو کا انعام دینا، کو کی سزا دینا، ـــ ہ: کو مطمئن کرنا۔ ـــ ہ ب: کی سے تلافی کرنا۔ ـــ عن: کی تلافی کرنا، کا رد عمل کرنا۔ جَزَاكَ اللّٰهُ خيرًا: اس کے لئے اللہ تمہیں خوش رکھے۔ جَزَاهُ جَزاءَ سِنِمَّارَ: اس نے برائی کے بدلے اس سے نیکی کی۔ جازا ہ ب: کا سے معاوضہ دینا، کا سے بدلہ دینا۔ ـــ ہ ب: کو کا معاوضہ دینا، کو کا بدلہ دینا۔ ـــ ہ ب/على: کو کا انعام دینا، کو کی سزا دینا۔ جازاهم خيرًا: اس نے اللہ تعالیٰ سے ان پر انعام کی دعا کی۔ أَجْزَی ہ: کو کافی ہونا، کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا۔ ـــ عن: کی جگہ لینا، کی جگہ کام کرنا۔ جَزاء: بدلہ، معاوضہ، جزا، سزا، تلافی، حساب چکانا، جرمانہ، تاوان۔ جزاء نقدی: جرمانہ۔ جَزائِی: سزا کا، تعزیری۔ جِزْيَة جمع جِزًی و جِزَاء: ٹیکس، خراج، باج، اسلامی حکومت میں آزاد غیر مسلموں پر فی کس ٹیکس۔ تَجْزِيَة: انعام۔ مُجَازاة: سزا، بدلہ، معاوضہ۔

جس: ۱۔ جَسَّ ـ جَسًّا و اِجْتَسَّ الارضَ: زمین روندنا۔

۲۔ جَسَّ ـ جَسًّا و اِجْتَسَّ ہ بعينه: کو گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا۔ ـ ہ: کا پتہ لگانے کے لئے ہاتھ سے چھونا، ٹٹولنا۔ المَجَسّ: چھونے کی جگہ، سینہ۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ ضيّقُ المجَسّ او المَجَسَّة: فلاں شخص تنگدل ہے، فلاں شخص کا سینہ تنگ ہے)۔ (ع ا): حشرات وغیرہ کی مونچھیں، جو چھونے کی حس رکھتی ہیں۔ المَجَسَّة جمع مَجَاس: بمعنی المَجَس (طب): نبض۔ کہا جاتا ہے: مُجَسَّتهُ حارّة: اس کی نبض گرم ہے۔ المِجَسَّة جمع مَجَاسّ و مِجَسَّات: چھونے کا آلہ۔ حَوَاسُّ الانسان: واحد حاسّة: ہاتھ، آنکھ، منہ، سونگھنے کی حس، سننے کی حس (انسان کے پانچ حواس)۔

۳۔ جَسَّ و تَجَسَّسَ و اِجْتَسَّ الاخبارَ و الامورَ: خبروں یا کاموں کی تفتیش کرنا، ان کی دریافت میں لگنا۔ الجَسِيس جمع أَجِسَّه و الجاسوس جمع جَوَاسِيس و الجسَّاس: حالات دریافت کرنے والا، حالات کی تفتیش کرنے والا، جاسوس۔ الجسَّاس جمع جَسَّاسات: برقی لہروں کو بھیجنے یا وصول کرنے کا آلہ۔ الجاسوسية: جاسوسی، جاسوسی کا پیشہ، جاسوسی کا محکمہ۔ ضد الجاسوسية: جوابی جاسوسی۔ (Counter- espionage - counter inteligence)۔

○ جَسَّ ـ جَسًّا و مَجَسَّةً ہ: کو چھونا، محسوس کرنا، ہاتھ سے چھونا، کو چھو کر معلوم کرنا، کی چھو کر پڑتال کرنا، کو جانچنا، آزمانا، کا امتحان کرنا، کا کھوج لگانا، کی تفتیش کرنا، کی چھان بین کرنا، کی تہہ کو پہنچنا، کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا، عمل سے قبل کے بارے میں صورت حال کا اندازہ کرنے کے بعد معلومات جمع کرنا۔ جَسَّ نبضه: کی نبض دیکھنا۔ (مجازًا) جَسّ نبضَ الشیءِ: کی چھان بین کرنا، کی تہہ کو پہنچنا، کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ تَجَسَّسَ ہ: کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کو معلوم کرنے یا دریافت کرنے کی کوشش کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی مخبری کے لئے پھرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا۔ تَجَسَّسَ: جاسوس ہونا، جاسوسی میں حصہ لینا۔ ـ علی: پر خفیہ طور پر کڑی نظر رکھنا، کی مخبری کرنا، کی ٹوہ میں لگا رہنا، کے بارے میں خواہ مخواہ تجسس کرنا۔ تَجَسَّسَ له الاخبارَ: کے لئے معلومات جمع کرنا، کے لئے جاسوسی کرنا۔ اِجْتَسَّ ہ: کو چھونا، محسوس کرنا، عمل سے قبل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا تاکہ صورت حال کا اندازہ کیا جاسکے۔ طَرِیُّ الجَسّ: چھونے میں نازک، نرم و ملائم سطح کا، تازہ۔ جاسُوس جمع جَوَاسِيس: جاسوس۔ جَاسُوسة: جاسوس عورت۔ جاسُوسِی: جاسوسی کا۔ جاسُوسِية: جاسوسی۔ مَجَسّ: چھونے اور محسوس کرنے کی جگہ، چھونے کی حس۔ خَشِنُ المُجَسّ: چھونے میں کھردرا، ناہموار سطح کا۔ مِجَسّ: زخم سلائی (probe)۔ تَجَسُّس: جاسوسی۔

جسا: جَسَأَ ـ جَسْأً و جُسُوءًا و جُسَاءَةً ت اليدُ من العمل: کام سے ہاتھ کا سخت ہو جانا۔ صفت: جَاسِئَة و جَسْآء: الجَسِیّ: سخت کھال، جما ہوا پانی۔ الجاسِی من النبات و نحوه: خشک پودا وغیرہ۔

○ جاسِی: سخت، کھردرا، سخت ناہموار۔

جسد: ۱۔ جَسِدَ ـ جَسَدًا الدمُ به: سے خون کا چپکنا، چمٹنا۔ صفت: جَسِد و جاسِد۔ الجَسَد جمع اَجْسَاد: خشک خون۔ الجَسِيد: خشک خون۔

۲۔ جَسَّدَہ: کو زعفران سے رنگنا۔ الجَسَد جمع أَجْساد و الجِساد (ن): زعفران۔

۳۔ تَجَسَّدَ: جسم والا ہونا۔ حضرت مسیح کلمۃ اللہ کا حضرت مریم کے اندر بشری جسم اختیار کرنا، تجسیم یسوع مسیح۔ الجَسَد جمع أَجْساد: انسان کا جسم۔ نسبت کی صورت میں۔ جَسَدِیّ و جُسْدانِیّ۔ المجْسَد: بدن سے متصل قمیض، بنیان۔ الجُساد: پیٹ کا درد۔

○ جَسَّدَ ہ: کو مادی بنانا، حیوانی بنانا، کو جسم پہنانا، کو ٹھوس شکل دینا، کو میں شامل کرنا، پر مشتمل ہونا، کو جسم

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عطا کرنا، کو مجسم کرنا، کو مادی شکل میں پیش کرنا۔ تَجَسَّدَ: مادی ہوجانا، حیوانی ہوجانا، ٹھوس شکل اختیار کرنا، عمل میں آنا، مادی صورت میں آنا، مجسم ہو جانا (مسیحی کا عقیدہ)، سہ بُعدی ہوجانا۔ (become three dimensional) جَسَد جمع أَجْسَاد: جسم، عِيدُ الجَسَد و خميسُ الجَسَد: عیسائیوں کا تہوار دربارہ تجسم حضرت عیسیٰ۔ جَسَدِيّ: جسمانی، بدنی، جسمی، انسانی، بشری، حیوانی، مادی، فانی، دنیاوی، نفسانی، شہوانی۔ جُسْدانِي: جسمانی، بدنی، جسمی۔ تَجَسُّد: وقوع، ظہور، تجسم، انسانی شکل (مسیحی عقیدہ)۔ مُتَجَسِّد: مجسم، عملی شکل دیا ہوا، ظاہری شکل میں لایا ہوا، عملی شکل میں ظاہر کیا ہوا۔ مُتَجَسِّد: مادی، جسمانی، مجسم، متشکل بشکل انسانی۔

جسر ۱۔ جَسَرَ ـُ جَسَارَةً و جُسُورًا على الامر: کو کرنے کی جسارت کرنا۔ ــــ و تجاسَرَ: لمبا ہونا، جرأت کرنا۔ جَسَّرَهُ: کو شجاع بنانا، دلیر بنانا۔ الجَاسِر جمع جُسَّار و جَاسِرُون و الجَسُور جمع جُسُر و جُسُر مونث: جَاسِرة: شجاع، بہادر، آگے بڑھنے والا۔ الجَسَرَة: جسارت، جرأت، دلیری، بہادری۔ الجَسَّار: بہت منچلا، بہت دلیر و بہادر۔

۲۔ جَسَرَ ـُ جَسْرًا: پل بنانا۔ ــــ اِجْتَسَرَ المفازَةَ: بیابان کو عبور کرنا، طے کرنا۔ الجَسْر و الجِسْر جمع جُسُور و أَجْسُر: پل۔

۳۔ الجَسْر مونث جَسْرَة من الرجال: بڑے ڈیل ڈول والا آدمی۔ ــ من الإبل: بڑا اونٹ۔

○ جَسَرَ ـُ جَسْرًا ه: کو عبور کرنا، کا احاطہ کرنا، میں سے گزرنا، کے پار جانا، کو قطع کرنا، کے شرق سے مغرب تک سفر کرنا۔ ــــ جَسَارَةً و جُسُورًا على: کی جرأت کرنا، کو خطرے میں ڈالنا، کو کرنے کی ہمت کرنا۔ جَسَّرَ: بند یا پشتہ بنانا، کھائی یا خندق بنانا۔ ــ ه على: کو کچھ کرنے کی جرأت دلانا کی ہمت بندھانا، کا جی بڑھانا۔ تَجَاسَرَ على: کی جسارت کرنا، جرأت کرنا (خطرہ) کا مقابلہ کرنا، (خطرناک کام کا) بیڑا اٹھانا، کو خطرہ میں ڈالنا، کے ساتھ گستاخی کرنا، ڈھیٹ بننا، منچلا ہونا، آگے کھیلنے والا ہونا۔ اِجْتَسَرَ ه: کو عبور کرنا، کا احاطہ کرنا، میں سے گذرنا، کے پار جانا، کو قطع کرنا، کے مشرق سے مغرب تک سفر کرنا۔ جِسْر جمع أَجْسُر و جُسُور: پل، پشتہ، کھائی، بند، خندق، سیلاب روک پشتہ۔ ــ جمع جُسُورَة: شہتیر، دھرا، دھرے کا ڈنڈا، گول ڈنڈی۔ جِسْرٌ مُتَحَرِّكٌ: متحرک پل۔ جِسْرٌ مُعَلَّق: لٹکتا پل، معلق پل۔ جِسْرٌ عائِمٌ: کشتیوں کا پل، تیرنے والا پل۔ جُسُور: بہادر، نڈر، بے باک، گستاخ، ڈھیٹ، آگے کھیلنے والا۔ جَسَارَة: بہادری، دلیری، نچلا پن، بے احتیاطی، لاپرواہی، جواں مردی، بے باکی، شجاعت، چستی، چالاکی، آزاد خیالی، ترقی پسندی، گستاخی، بے ادبی، شوخی۔ تجاسُر: بہادری، منچلا پن، بے احتیاطی، لاپرواہی، جواں مردی، بے باکی، شجاعت، چستی چالاکی، آزاد خیالی، ترقی پسندی، گستاخی، بے ادبی، شوخی۔ مُتَجاسِر: بہادر، نڈر، گستاخ، منچلا، ڈھیٹ، تیز، دلیر، سرگرم۔

جسع: جَسَعَ ـَ جُسُوعًا عن العطاء: عطا سے رکنا، باز رہنا۔ الجَاسِع من السفر: دوردراز کا سفر، لمبا سفر۔

جسم ۱۔ جَسُمَ ـُ جَسَامَةً: تناور، موٹا ہونا، مضبوط ہونا۔ صفت: جُسَام و جَسِيم جمع جِسَام مونث: جُسَامَة و جسيمة۔ جَسَّمَهُ: کو موٹا اور مضبوط کرنا۔ تَجَسَّمَ: تناور اور موٹا ہونا۔ ــــ الأمرَ او الرملَ: کسی امر عظیم کی طرف اقدام کرنا یا ریگستان کے بیشتر حصہ کو طے کرنا۔ ــ فلانٌ من الكرم: کرم و فیاضی کا پتلا ہونا۔ ــ فلانًا من بين القوم: کو قوم میں سے چن لینا۔ الجسم جمع أَجْسَام و أَجْسُم و جُسُوم: بدن، جسم، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی رکھنے والی چیز۔ نسبت کے لئے: جِسْمِي و جُسْمَانِي۔ الجُسْم: بڑے بڑے امور۔ الأَجْسَم: زیادہ تناور اور بڑا۔ المُجَسَّم: ہر وہ چیز جو طول و عرض و عمق رکھتی ہو، جسم کے طول کو اس کے عرض اور عمق سے ضرب دینے سے حاصل ہونے والا عدد۔ الجُسْمان: جسم۔

۲۔ تَجَسَّمَ في عيني كذا: کے خیال و تصور میں آنا۔ ــ الارضَ: کسی زمین کا ارادہ کرنا۔

○ جَسُمَ ـُ جَسَامَةً: بڑا ہونا، قدآور ہونا، جسیم ہونا، بھاری ہونا، پہاڑ کا پہاڑ ہونا، فراخ ہونا، کشادہ ہونا، لاانتہا ہونا، بہت ہونا، بہت بڑا ہونا، بے حد ہونا، عظیم ہونا۔ جَسَّمَ ه: کو مادی بنانا، جسمانی بنانا، کو جسم پہنانا، کو شکل یا صورت دینا، کو جسمانی بنانا، کی تشکیل کرنا، کو ظہور میں لانا، کو حقیقت کا جامہ پہنانا، مادیت کے رنگ میں رنگنا: کو نمایاں کرنا، واضح کرنا، کو بڑا کرنا، بڑھانا، (خوردبین کا)، کو بڑا بنانا، ضخیم بنانا، بہت بڑا بہت وسیع اور بہت ضخیم بنانا، کو زیادہ اہم ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تَجَسَّمَ: مادی یا حیوانی ہو جانا، مجسم ہو جانا، عمل میں آنا، مادی صورت میں آنا، … جانا، جامہ عمل پہننا، مادی صورت میں آنا، بڑا ہو جانا، بہت بڑا ہو جانا، حجم میں بڑھ جانا، جسامت اور قد و قامت میں بڑھ جانا۔ جِسْم جمع أَجْسَام و جُسُوم: جسم، گاڑی وغیرہ کی باڈی، صورت، شکل، مادہ، اصلی جزو۔ جِسْمِي: جسمانی، بدنی، مادی، ٹھوس، مضبوط، اصلی، حقیقی۔ جَسِيم جمع جِسَام: بڑا، طول طویل، ضخیم، بہت بڑا، بہت وسیع، بہت ضخیم وسیع، خاصا موٹا، لحیم و شحیم، موٹا، فربہ، بوجھل، بہت بھاری، انتہائی اہم۔ جُسَيْم جمع جُسَيْمات: ذرہ، خون میں زندہ مادہ کی بہت چھوٹی اکائی سرخ یا سفید رنگ کی۔ أَجْسَم: زیادہ طول طویل، زیادہ ضخیم، زیادہ بڑا، زیادہ لحیم و شحیم، زیادہ فربہ۔ جَسَامة: قد، قامت، جسامت، حجم، موٹاپا، فربہی، تنومندی، طاقت وری۔ جُسْمان: جسم، تودہ۔ جُسْمانِي: جسمانی، مادی، بدنی۔ التأديب الجُسْماني: جسمانی سزا۔ تَجْسِيم: یکجائی، عملی اظہار، جو کسی چیز کو ٹھوس صورت دے، نمایاں خدوخال، واضح خاکہ، طول کلامی، کشادگی، توسیع، مبالغہ، بڑھا چڑھا کر دکھانا، بڑھا چڑھا کر دکھانے کی قوت۔ مُجَسَّم: جسمانی، بڑا کر کے دکھایا ہوا، مادی، سہ بُعدی، محسوس، ٹھوس، ہیولائی، ابھارا ہوا۔ خَرِيطَةٌ مُجَسَّمَة: طبعی نقشہ جس میں قدرتی چیزیں ابھار کر یا رنگ بھر کر دکھائی جاتی ہیں۔ فِلْم مُجَسَّم: سہ بعدی فلم۔

جسأ: جَسَأَ ـَ جَسْأً و جُسُوءًا: بمعنی جَسَأَ۔ جَاسَى مُجَاسَاةً ه: سے دشمنی کرنا۔

○ جسا ـُ جُسُوًّا: سخت ہو جانا، ٹھوس ہو جانا۔

جش: ۱۔ جَشَّ ـُ جَشًّا ه: کو کوٹنا، توڑنا۔ اجْتَشَّ الشيءَ: کو کوٹنا، توڑنا۔ ــ البُرَّ: گیہوں کو موٹا پیسنا، کا دلیا نکالنا۔ صفت مفعولی: جَشِيش و مَجْشُوش۔ المِجَشّ و المِجَشَّة: دلیا دلنے کی چکی۔

۲۔ جَشَّ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، کوچ کرنا (ضد)۔ الجَشَّة و الجُشَّة: ایک ساتھ آنے والا لوگوں کا گروہ۔

۳۔ جَشَّ المكانَ: کسی جگہ جھاڑو دینا، اس کو صاف کرنا۔ ــ دَمْعَهُ: آنسو نکالنا، بہانا۔

۴۔ جَشَّ ه بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

۵۔ أَجَشَّ و اِجْتَشَّ المكانُ: جگہ کا گنجان و گھنی گھاس اور نباتات والی ہونا۔

۶۔ الجَشّ من المواضع: پتھریلی جگہ۔ الجَشَّة و الجُشَّة: بیٹھی، بھرائی ہوئی یا روکھی آواز۔ الأَجَشّ مونث جَشَّاء: بھونڈی آواز والا آدمی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

○ جَشَّ ۔جَشًّا ہ: کو پیسنا، کچلنا، رگڑنا، کدوکش پر چھیلنا۔ جُشَّۃ: آواز کا بیٹھا ہوا یا بھرائی ہوئی ہونا، آواز کا روکھا پن، آواز کا بھاری پن۔ جَشِیش: پسا ہوا، کچلا ہوا، رگڑا ہوا، کدوکش کیا ہوا۔ اَجَشّ مونث جَشَّاء: بیٹھی، بھرائی ہوئی یا بھاری (آواز)۔

جشأ ا۔ جَشَأَ ۔جُشُوءًا و جُشْأً و جَشَأَتْ نفسُہُ: کا خوف یا غم کے باعث جی متلانا۔ ــــ البحرُ: سمندر کا ہیجان میں آنا۔ جَشَّأَ تجشئۃً و تَجشَّأَ تجشُّؤًا: ڈکار لینا۔ اِجْتَشَأَ البلادَ و احتشأتہُ البلادُ: ملک کو ناموافق پانا یا ملک کا ناموافق ہونا۔ الجُشَاء واحد جُشَأۃ و جُشَأَۃ: ڈکار۔

۲۔ جَشَأَ ۔جُشُوءًا و جُشْأً و جَشَأَ المکانُ: جگہ کا خوب پودے اگانا۔ مِنَ المکان جگہ سے نکلنا۔

○ جَشَّأَ و تَجَشَّأَ: ڈکار لینا۔ جُشَاء و جُشَأۃ ڈکار، ڈکار لینا۔

جشب: جَشَبَ ۔و جَشِبَ ۔جَشَبًا و جَشُبَ ۔جَشَابۃً الطعامُ: کھانے کا موٹا اور بدذائقہ ہونا صفت جَشْب و جَشِب و جَشِیب و مِجْشَاب و مَجْشُوب۔ جَشُبَ الرجلُ: کا بدغذا ہونا، بری خوراک پر گذارہ کرنا۔ المِجْشَب موٹے جسم والا، بہادر۔

جشر ا۔ جَشَرَ ۔جَشْرًا المواشیَ: مویشیوں کو چرنے کے لئے نکالنا، لے جانا۔ ۔ جُشُورًا الرجلُ: سفر کرنا۔ جَشَّرَ المواشیَ: مویشیوں کو چرانے کے لئے نکالنا، لیجانا۔ الجَشَر و الجُشَّار: چراگاہ میں چرنے کے بعد شام کو اپنے مالکوں کے پاس لوٹ کر نہ آنے والے مویشی، چراگاہ میں اپنے اونٹوں کے ساتھ رات گزارنے اور گھر نہ لوٹنے والے لوگ۔ الجُشَارِیّ چرواہا۔

۲۔ جَشَرَ ۔جُشُورًا الصبحُ: پو پھٹنا۔

۳۔ جَشِرَ ۔جَشَرًا و جُشِرَ: کی آواز کا بیٹھنا، کا کھانسنا۔ صفت: اَجْشَر مونث جَشْرَاء جمع جُشْر۔ الجُشْرَۃ: آواز کا بیٹھا ہوا ہونا، کھانسی۔

۴۔ جَشَّرَ الاناءَ: برتن کو خالی کرنا۔ المِجْشَر جمع مَجَاشِر: حوض۔

○ جُشَر ڈھور ڈنگر، مال مویشی۔

جشع: جَشِعَ ۔جَشَعًا و تَجَشَّعَ: بدحرص اور لالچی ہونا صفت: جَشِع جمع جَشِعُون و جَشَاعَی و جُشْعَاء و جِشَاع۔ تَجَاشَعَا الماءَ: پانی پر باہم برافروختہ ہونا۔

○ جَشِعَ ۔جَشَعًا و تَجَشَّعَ: لالچی ہونا، حریص ہونا۔ جَشَع: حرص، لالچ، طمع، حد سے زیادہ خواہش، حسرت یا تمنا۔ جَشِع حریص، لالچی۔

جشم ا۔ جَشِمَ ۔جَشْمًا و جَشَامَۃً الامرَ: تکلیف اور مشقت سے کام کرنا۔ کہا جاتا ہے: جَشِمْتُ الیک عَرَقَ القِربَۃ: میں نے تمہاری وجہ سے بڑی مشقت جھیلی۔ جَشَّمَ و اَجْشَمَ ہ الامرَ: کو کام کرنے کی تکلیف دینا۔ کہا جاتا ہے: مهما تُجَشِّمُنی فانی جاشِم: جتنی بھی تم مجھے تکلیف دو گے میں جھیلوں گا۔ تَجَشَّمَ الرملَ: ریگستان کے بیشتر حصہ کو عبور کرنا۔ ــــ الأمرَ: تکلیف اور مشقت سے کام کرنا۔ الجَشْم و الجُشْم: بوجھ، بھاری کام (کہا جاتا ہے: القی علیَّ جشمَہُ: اس نے اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دیا)۔ ــــ من البعیر: اونٹ کا سینہ۔ الجَشِم و الجَشِیم موٹا، بھاری۔

۲۔ تَجَشَّمَ فلانًا مِن بینِ القومِ قوم میں سے فلاں کو چن لینا اور اس کی روش اور طریقے پر چلنا۔

○ جَشِمَ ۔جَشْمًا و جَشَامَۃً ہ: کوئی مشکل اٹھانا، کو کرنے کی جسارت کرنا۔ جَشَّمَ ہ کو کچھ برداشت کرنے کا باعث ہونا، کوئی تکلیف دینا، کے گلے کوئی مشکل کام منڈھنا، پر کوئی بوجھ لادنا۔ تَجَشَّمَ ہ: کوئی مشکل اٹھانا، جھیلنا (مشکلات میں سے) گذرنا، (تکلیفیں) برداشت کرنا، (کڑیاں) جھیلنا۔

جشن: الجَوْشَن: سینہ، زرہ۔ ــــ من اللیل: وسطِ شب۔

○ جشنی (شِشْنی) نمونہ، مثال، جانچنا (نمونہ لے کر یا تجربہ کرکے)۔

جصّ ا۔ جَصَّ ۔جَصًّا و جَصِیصًا: سخت بندھ جانے کی وجہ سے کراہنا۔

۲۔ جَصَّصَ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنا۔ ــــ العنقودُ: خوشہ کا پھوٹنے کے قریب ہونا۔

۳۔ جَصَّصَ علی العدوّ: دشمن پر حملہ کرنا۔

۴۔ جَصَّصَ البناءَ: عمارت پر سفیدی کرنا، گچ کرنا۔ الجَصّ و الجِصّ (ب): گچ، چونہ۔ الجَصَّاص گچ والا، گچ بیچنے والا۔ الجَصَّاصَۃ: چونے کا کارخانہ، چونے کی بھٹی۔

۵۔ اِجْتَصَّ و تَجَاصَّ القومُ قریب قریب ہونا، اکٹھا ہونا۔ الجَصِیصَۃ: پاس پاس رہنے والے لوگوں کا گروہ۔

○ جَصَّصَ ہ: پر پلستر کرنا، کہگل کرنا، سفیدی کرنا۔ جِصّ: جپسم، کھریا مٹی، پلاسٹر آف پیرس۔

○ جَصْطَنَ: آرام سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونا یا بیٹھنا، سستی سے دراز ہونا، اینڈنا، سستی سے پڑے رہنا، پاؤں پسار کر لیٹنا یا بیٹھنا۔

جضّ: جَضَّ ۔جَضًّا علیہ بالسیف: پر تلوار سے حملہ کرنا۔

جعّ: ا۔ جَعْجَعَ البعیرَ: اونٹ کو بٹھانے یا اٹھانے کے لئے حرکت دینا۔ ــــ البعیرُ: اونٹ کا بیٹھنا۔ تَجَعْجَعَ البعیرُ ونحوہ: درد کے سبب زمین پر گر پڑنا (اونٹ وغیرہ کا)۔ الجَعْجَعَۃ (مص): اکٹھے ہونے والے اونٹوں کی آواز، چکی چلنے کی آواز، اسی سے ضرب المثل ہے: اسمع جَعْجَعَۃً و لا اری طِحنًا: میں چکی چلنے کی آواز تو سنتا ہوں مگر آٹا مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ضرب المثل اس بزدل کے لئے ہے جو بھپکیں تو بہت مارتا ہے مگر کچھ کرکے نہیں دکھاتا یا اس کنجوس کے لئے ہے جو وعدے تو بہت کرے مگر ایک وعدہ بھی پورا کرکے نہ دکھائے۔

۲۔ جَعْجَعَ بالغریم: مقروض سے سختی سے مطالبہ کرنا۔

۳۔ جعجع فی المکان: کسی جگہ میں غیر مطمئن حالت میں بیٹھنا۔ ــــ بالقوم: لوگوں کو تنگ اور سخت جگہ میں ٹھہرنے پر مجبور کرنا۔ الجَعْجَاع: تنگ اور سخت جگہ، میدان کارزار، قحط زدہ زمین۔

○ جَعْجَعَ جَعْجَعَۃً: غوغا کرنا، شور مچانا، ہنگامہ برپا کرنا، دھاڑنا، ڈکرانا، چنگھاڑنا، گرجنا، چیخنا، چیخ کر پکارنا، چیخ پکار کرنا، بک بک کرنا، کھٹا کھٹ کرنا، تالی بجانا، بڑبڑانا، دھمکانا، بھوں بھوں کرنا، غصہ سے پھٹنا۔ جَعْجَعَۃ ہلچل، افراتفری، شوروغل، غل غپاڑہ، لڑائی بھڑائی کا شور وشور، ہنگامہ، جھگڑا، دھاڑ، گرج، چیخ، بلند آواز، زور کی پکار، کھڑکھڑاہٹ، کھڑکھڑ، پٹ پٹ، کڑک، بھڑاکا، دستک، تالی، چرچر، چرچراہٹ، (چکی یا پہیے کی) بھڑبھڑائی آواز، دھمکی، بڑ۔ جَعْجَاع غوغائی، شور کرنے والا، اودھم مچانے والا، کلہ دراز، بھڑک دار، دنگا کرنے والا، فسادی، آواز لگانے والا۔

جعب: ا۔ جَعَبَ ۔جَعْبًا الجَعْبَۃَ: ترکش بنانا۔ الجَعْبَۃ جمع جِعَاب ترکش۔ الجَعَّاب: ترکش بنانے والا۔ الجِعَابَۃ ترکش بنانے کی صنعت۔

۲۔ جَعَبَ ۔جَعْبًا و جَعَّبَ تجعیبًا و جَعْبَأَ جَعْبَأَۃً و جِعْبَاءً ہ: کو الٹ دینا، پچھاڑ دینا۔ تَجَعَّبَ و اِنْجَعَبَ: بچھڑ جانا۔ تَجَعْبَی بچھڑ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جاتا۔ الجیشُ: فوج کا بھیڑ کر کے ایک دوسرے پر چڑھنا۔ الجعباء: سرین۔

۳۔ الأجعب مونث جعباء جمع جُعب: بڑے پیٹ والا، کام میں مٹا۔ الجُعبُوب جمع جَعَابیب: پست قد، بدشکل۔

○ جعَّة: ہلکی شراب، جو کی شراب۔

○ جَعَّبَ ہ: میں نالیاں بنانا، لہر ڈالنا، شکن ڈالنا۔ جَعبَة جمع جعاب: ترکش، تیر رکھنے کا تھیلا، ٹیوب، پائپ، بندوق کی نالی، کارتوسوں کی تھیلی۔ جعبةُ اخبار: شہر کا گپی، یاوہ گو۔

جعد: ۱۔ جَعُدَ ـُ جَعَادَةً و جُعُودَةً الشعرُ: بالوں کا گھونگریالے ہونا۔ جَعَّدَ الشعرَ: بالوں کو گھونگریالے بنانا۔ تَجَعَّدَ الشیءُ: سکڑنا ـــــ الشعرُ: بالوں کا گھونگریالے ہونا۔ الجَعْد جمع جِعَاد من الشعر: گھونگریالے بال۔

۲۔ الجَعْد جمع جِعاد: کنجوس، کمینہ، بخیل۔ رجلٌ جَعْدٌ: کمینہ، بخیل آدمی۔ جعد الید: بخیل۔ رجلٌ جَعْدُ القفا: کمینہ حسب ونسب والا آدمی۔ ترابٌ جَعْدٌ: نمناک مٹی۔ وجہٌ جَعْدٌ: گول کم ملاحت والا چہرہ۔ زبدٌ جَعْدٌ: تہ بہ تہ مکھن۔ الجَعْدَہ (ن): ایک قسم کا خوشبودار پودا، موسم بہار میں اگتا ہے اور جلد خشک ہو جاتا ہے۔ ابو جَعْدَة و ابو جَعَادَة ا؍ جُعَادَة: بھیڑیے کی کنیت۔

○ جَعُدَ ـُ جُعُودَةً و جَعَادَةً و تَجَعَّدَ: بالوں کا گھونگر والے ہونا، کنگھی یا بل دار ہونا، لہر دار ہونا، شکن یا سلوٹ دار ہونا، جھریاں پڑنا، شکن پڑنا۔ جَعَّدَ ہ: کو گھونگریاں بنانا، مروڑنا، بل دینا، (بالوں) کو لہریا بنانا، گھونگریالے بنانا، کسی چیز کو لہریا بنانا، (کپڑے) میں سلوٹ یا شکن ڈالنا، پلیٹ ڈالنا ـــــ ہ: کھال پر جھریاں ڈالنا، شکن ڈالنا۔ جَعْد یا جَعْدُ الید، جعد الکف: کنجوس، بخیل، کمینہ۔ جَعْدَة: گھونگریالے بال، گیسوئے تابدار، زلف پرشکن، بالوں کی لٹ، زلف، گیسو۔ جَعْدی و أجعَد: گھنگریالا۔ جَعِیدِیّ: گھٹیا، آوارہ گرد، ناکارہ شخص۔ تجاعید: جھریاں، شکنیں، چہرے کی لکیریں۔ تَجَعُّدات: جھریاں، شکنیں، چہرے کی لکیریں۔ مُجَعَّد: گھنگریاں، لہریا، لیک دار، شکن دار، جھری دار۔ مُتَجَعِّد: بمعنی: مُجَعَّد۔

○ جَعْدَنَة: گپ شپ، دوستوں کے متعلق افواہیں۔

جعر: ۱۔ جَعَرَ ـَ جَعْرًا و اِنْجَعَرَ السبعُ: درندے کا پاخانہ کرنا۔ الجَعْر (مص) جمع جُعُور: درندہ کا پاخانہ۔ جِعَارِ و ابو جَعَارِ و اُمُّ جَعَارِ: بجو۔ الجَعْرَاء و المَجْعَر: دبر۔ ابو جعران: گبریلا۔ اُمُّ جعران: بڑا گدھ۔

۲۔ تَجَعَّرَ: کنویں میں گرنے کے ڈر سے کنویں میں اترتے وقت کمر سے رسی باندھنا۔ الجِعَار: وہ رسی جو کنویں میں اترنے والا اپنی کمر سے باندھ لیتا ہے اور اس کا دوسرا سرا کسی کھونٹے سے تاکہ کنویں میں نہ گر جائے۔ جانور کے سرین کے ان حصوں پر نشان جن پر دم ہلاتے وقت لگتی ہے۔ الجَاعِرتان: جانور کے سرین کے وہ حصے جن پر دم ہلاتے وقت لگتی ہے۔ کہا جاتا ہے: کوی دابته علی جاعرتیها: اس نے اپنے جانور کے رانوں کو لوہے سے داغدار کر دیا۔

○ جَعَرَ ـَ جَعْرًا: جانور کا گوبر کرنا، لید کرنا۔ ابو جعران: بھونرا۔

جعس: جَعَسَ ـَ جَعْسًا الرجلُ: آدمی کا پاخانہ کرنا۔ تَجَعَّسَ: گھن کھانا، فحش بکنا۔

جعظ: جَعَظَ ـَ جَعْظًا و أجعظ ہ: کو ہٹانا، دفع کرنا۔ جَعِظَ ـَ جَعَظًا: بدخلق و تندمزاج ہونا۔ صفت: جَعْظ و جَعِظ۔

جعف: ۱۔ جَعَفَ ـَ جَعْفًا ہ: کو پچھاڑنا۔ الشجرةَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اجْعَفَ ہ: کو پچھاڑنا۔ اِجْتَعَفَ الشجرةَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اِنْجَعَفَتِ الشجرة: درخت کا جڑ سے اکھڑ جانا۔ الجَاعِف و الجُعَاف من السیول: بیخ کن اور ہر چیز بہالے جانے والا اسیلاب۔ الجَعْف (مص): وہ تھوڑی روزی جس میں سے کچھ نہ بچے۔

۲۔ الجَعْفَر: دریا، ندی، بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

۳۔ الجعفیل (ن): ایک طفیلی پودا جس کے تنوں پر مختلف رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ دنیا کے متعدد علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس کے زمین کے حصے کئی پودوں کی جڑوں سے چمٹ جاتے ہیں اور ان کا رس چوس لیتے ہیں۔

جعل: ۱۔ جَعَلَ ـَ جَعْلًا ہ: کو بنانا، پیدا کرنا، کی تخلیق کرنا (جیسے جعل اللّٰهُ الظلمات: اللہ تعالی نے تاریکیاں پیدا کیں)، کو رکھنا، مقرر کرنا جیسے جَعَلَهُ حاکمًا: کو حاکم مقرر کیا، تبدیل کرنا، جیسے: جَعَلَ الحسنَ قبیحًا: حسن کو تبدیل کر کے بدصورت کر دیا۔ تَجَاعَلُوا الشیءَ: کو ٹل کر بنانا۔ اجْتَعَلَ ہ: کو گھڑنا ـ الشیءَ: کو بنانا۔

۲۔ جَعَلَ ـَ جَعْلًا ہ: کو گمان کرنا، خیال کرنا جیسے: جعل الحق باطلًا: اس نے حق کو باطل خیال کیا۔

۳۔ جَعَلَ ـَ جَعْلًا: کرنے لگنا، شروع کرنا جیسے جَعَلَ … یکتب: وہ لکھنے لگا، اس نے لکھنا شروع کیا۔

۴۔ جَعَلَ ـَ جَعْلًا: دینا، جیسے: اِجْعَلْ لی لسانَ صدقٍ: مجھ کو سچی زبان عطا فرما۔ له کذا علی کذا: سے شرط باندھنا۔ جَاعَلَ مُجَاعلةً و جِعَالًا ہ: کو رشوت دینا۔ أجْعَلَ له: کی کسی کام پر مزدوری مقرر کرنا ـــــ ہ جُعْلًا: کو مزدوری دینا۔ اِجْتَعَلَ الشیءَ: کو لینا، آپ کہتے ہیں: جعلته الشیء فاجتعله: اس نے اس کو کوئی چیز دی اور اس نے لے لی۔ الجَعَال جمع جُعُل و الجَعَالَة (تثلیث الجیم سے) و الجُعْل جمع أجْعَال و الجَعِیْلَة جمع جَعَائِل: مزدوری، اجرت، فوجی سپاہی کا وظیفہ یا اس کی تنخواہ۔ الجَعَالَة: رشوت۔

۵۔ جَعِلَ ـَ جَعَلًا الغلامُ: لڑکے کا موٹاپے کے ساتھ پست قد ہونا۔

۶۔ جَعِلَ ـَ جَعَلًا الرجلُ: آدمی کا جھگڑالو ہونا۔ صفت جُعَل۔

۷۔ جَعِلَ ـَ جَعَلًا الماءُ: پانی میں سیاہ کیڑوں کا بکثرت پیدا ہو جانا۔ أجْعَلَ الماءُ: پانی میں سیاہ کیڑوں کا بکثرت پیدا ہو جانا۔ ماءٌ جَعْل و جَعِل: بکثرت سیاہ کیڑوں والا پانی۔ جُعَل جمع جِعْلان (ح): سیاہ بھونرا، سیاہ اور بدشکل آدمی۔

۸۔ الجُعَل: رقیب۔ الجِعَال: چولہے سے دیگچی اتارنے کے لئے استعمال کی جانے والی صافی۔

○ جَعَلَ ـَ جَعْلًا ہ ہ: کو قاعدہ یا اصول وغیرہ بنانا ـــــ ہ ہ: کو رہنما، بادشاہ وغیرہ بنانا، کو کسی منصب یا عہدے وغیرہ پر فائز کرنا ـــــ ہ ہ: کی کوئی قیمت مقرر کرنا ـــــ ہ ب یا ہ ہ: کو کوئی (شخص) خیال کرنا، یقین کرنا، سمجھنا ـــــ ہ ہ: کو کوئی چیز وغیرہ خیال کرنا، یقین کرنا، سمجھنا ـــــ ہ ب یا ہ ہ: کو غلطی سے کوئی شخص سمجھنا، فرض کرنا، خیال کرنا ـــــ ہ ہ: کو غلطی سے کوئی چیز سمجھنا، فرض کرنا، خیال کرنا ـــــ ہ فی صورة: کی بطور یا کی صورت میں نمائندگی کرنا ـــــ ہ ل: کو کے لئے یا کے حق میں طے کرنا، کی چیز کو کسی کو دینا، عطا کرنا۔ ـ ل ہ: کو کے راستہ میں رکھنا، کی طرف کوئی بات وغیرہ منسوب کرنا ـــــ ہ ل: وثوق سے کہنا کہ کوئی چیز فلاں شخص کی ہے، کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا ـــــ ہ/ہ: کو مخصوص حالت میں رکھنا ـــــ (مضارع کے ساتھ) کو کرنے لگنا۔ جَعَلَهُ یفعل: کو کرنے پر اکسانا، سے کچھ کرانا۔ جَعَلَه بمنزلة: کو کے درجہ پر رکھنا۔ جَعَلَه فی متناول یده: کو کسی کی دسترس، رسائی میں رکھنا، کی تک رسائی کرانا۔ جَاعَلَ ہ ب: کو

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کی رشوت دینے کی کوشش کرنا، کو سے ہمنوا بنانے کی کوشش کرنا۔ جُعْل جمع اَجْعَال: تنخواہ، مزدوری، انعام۔ جُعْلى: اتفاق۔ اتفاقٌ جُعْلِيّ: ٹھیکے کا کام۔ جُعَل جمع جعلان: بھونرا۔ جعالہ و جَعَالة و جُعَالة جمع جعائِل: تنخواہ، مزدوری، الاونس، انعام، رشوت۔

جعم ۱- جَعِمَ ـَ جَعَمًا ہ: کے منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا کہ وہ کاٹ یا کھا نہ سکے۔ ـــ و جَعِمَ ـَ جَعَمًا: کھانے کی خواہش نہ ہونا، خواہش ہونا (ضد): کہا جاتا ہے: جَعِمَ الی اللحم: اسے گوشت کی سخت خواہش ہوئی، اسے کھانے کی رغبت نہ ہوئی۔ جَعِمَ و تَجَعَّمَ فی الشیء: کی طمع کرنا صفت: جَعْم و جَعِم ـ الجعْم: بھوک۔ الجَيْعَم: ایسا بھوکا جو ہر شے دیکھ کر کھانے کی خواہش کرے۔

۲- أَجْعَمَ الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا، کی بیخ کنی کرنا۔ ـــ الشجرَ: درخت کے پتے جڑ تک چر جانا۔

۳- المَجْعَم: پناہ لینے کی جگہ۔

جعا: جَعَا ـُ جَعْوًا البعرَ ونحوہ: مینگنیاں جمع کر کے ڈھیر لگانا۔ الجَعْو (مص): ہاتھوں سے لگایا ہوا ڈھیر، سرین، کیچڑ۔ الجِعَة: جو کی شراب، بیرہ (beer)۔

جغر: الجغرافِيَّة و الجغرافيا: علم جغرافیہ۔ الجغرافية الاقتصادية: پیداوار اور مصنوعات کا علم۔ الجغرافية الطبيعية: طبعی جغرافیہ۔ الجغرافية الرياضية: اجرام سماویہ (جیسے ستارے و سیارے) کے مابین زمین کے جائے وقوع کا علم۔ الجغرافية التاريخية: اجناس، لغات اور ممالک کی حدود اور ادوار کا علم۔ الجغرافية البشرية: باشندوں کا علم۔ الجُغرافِيّ: جغرافیہ دان۔ جغرافي: جغرافیائی، جغرافیہ دان۔

جفّ: جَفَّ ـِ جَفَافًا و جُفُوفًا: خشک ہونا، سوکھنا۔ صفت: جافّ و جَفِيف: مجازاً کہا جاتا ہے: جفّ لِبْدُہ: اس نے سفر و کوچ کو چھوڑ کر اقامت اختیار کر لی۔ جَفَّفَ تَجْفِيفًا و تَجْفَافًا ہ: کو خشک کرنا، سکھانا۔ تَجَفَّفَ: خشک ہو جانا، سوکھ جانا۔ اِجْتَفَّ ما فی الاناء: برتن کا سب کچھ چٹ کر جانا۔ الجُفّ: بہت بوڑھا۔ الجَفْجَف: خشک و سخت زمین۔ الجفيف: خشک گھاس۔ الجُفَاف: سوکھی ہوئی چیز۔

۲- جَفَّ ـِ جَفًّا المالَ: مال جمع کر کے چمٹ ہو جانا۔ الجَفّ و الجَفَّة و الجُفّ و الجُفَّة: لوگوں کی جماعت، بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے: جاءَ القومُ جُفَّةً: ساری قوم آئی۔

۳- جَفَّفَ الفرسَ: گھوڑے کو پاکر پہنانا۔ التِجْفَاف و التَجْفاف جمع تَجافِيف: لڑائی میں بچنے کے لئے زرہ کی مانند ایک آلہ، جو گھوڑے اور انسان کے لئے ہوتا ہے۔ الجُفَيف جمع جُفَيْفَات (اع): چھوٹی نلکی جو کارتوس کو لپیٹے ہوتی ہے۔

۴- الجُفّ: مصلح (کہا جاتا ہے: هو جُفُّ مالٍ: وہ مال کی اصلاح کرنے والا ہے)، ہر کھوکھلی چیز (بانس یا سرکل کی نلکی کی طرح کی)۔

۵- جَفْجَفَ الإبلَ: اونٹوں کو اتنی تیزی سے ہانکنا کہ وہ ایک دوسرے پر چڑھنے لگیں۔ ـــ الثوبُ: گیلے کپڑے کا سوکھ کر کچھ نمدار رہ جانا۔ تَجَفْجَفَ الطائرُ: پرندے کا انڈے سینا۔ الجَفْجَف: بلند زمین، پست زمین (ضد)۔ الجَفْجَفَة: نئے کپڑے کی کھڑکھڑاہٹ۔ جَفْجَفَةُ الموكب: جلوس کے چلنے سے پیدا ہونے والی آواز۔ الجَفاجِف: ہیئت و لباس۔

○ جَفّ ـَ جَفَافًا و جُفُوفًا: خشک ہونا، سوکھنا۔ جَفَّفَ ہ: کو خشک کرنا، سکھانا۔ جَفَاف: خشکی، خشک کرنا، سکھانا، بے حسی۔ تِجْفاف جمع تجافيف: حفاظتی زرہ۔ تَجْفِيف: خشک کرنا، سکھانا، پانی کا نکالنا۔ جافّ: خشک۔ قَلَمُ حِبرٍ جافٍ: بال پوائنٹ پین ball point pen۔ مُجَفَّف: خشک کیا ہوا، سکھایا ہوا، پانی نکالا ہوا۔ مُجَفَّفَات: کھانے کی چیزیں، جن سے پانی خارج کر دیا گیا ہو، پانی نکلی ہوئی اشیائے خوردنی۔

جفأ: ۱- جَفَأَ ـَ جَفْأً الرجلَ و ـ بہ الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا، پٹک دینا۔ أَجْفَأَ بہ: کو پچھاڑنا۔

۲- جَفَأَ ـَ جَفْأً النهرُ: دریا کا جھاگ اور کوڑا کرکٹ پھینکنا۔ ـــ ت القدرُ: ہانڈی کا جھاگ یا جو چیز اس میں ہے کو اچھال پھینکنا۔ ـــ القدرَ: ہانڈی کو جھکا کر اس میں سے چیز انڈیل دینا۔ اِجْتَفَأَ الشیءَ: کو اکھیڑ کر پھینکنا (سیلاب کا)۔ الجُفَاء: دریا کے دونوں کناروں پر سیلاب کی پھینکی ہوئی چیزیں مثل خس و خاشاک، بے فائدہ جھوٹ، رائیگاں۔ کہا جاتا ہے: ذَهَبَ جُفَاءً: وہ رائیگاں گیا۔

۳- أَجْفَأَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔

۴- أَجْفَأَ الناقةَ: اونٹنی کو چلا کر تھکا دینا۔

۵- أَجْفَأَ و تَجَفَّأَ ت البلادُ: ملک کا بے برکت ہونا۔

○ جُفَاء: [illegible] لاحاصل، بے کار، بے اثر، بے نتیجہ۔ ذَهَبَ جُفَاءً: فضول ہوا، بیکار گیا، لاحاصل ہوا، یونہی گیا، بے نتیجہ رہا، بے اثر رہا۔

جفت: ۱- جُفْت: ترکی لفظ بمعنی جوڑا یا دو ای سے دو مونہی بندوق کو جفت کہا جاتا ہے۔

۲- جُفْتِلِك: ترکی لفظ بمعنی مزروعہ زمین، کسانوں کے گھروں اور ان سے متصل زمینوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

○ جِفْت و جُفْت (تلفظ سِفت): سنسی، چمٹا، موچنا، دست پناہ، لگ چونٹی، نگ چونٹی، چمٹی، دھاتی شکنجہ۔ جفتُ شریان: شریانی شکنجہ۔

○ جِفْتِشِی: تلفظ سِفْتِسِی: زردوزی، طلا کاری، سلمہ ستارے کا کام، سنہرے نقش و نگار، کوئی نفیس بھڑکیلی چیز۔

○ جِفْتِلِك: مزروعہ زمین، چک، زراعتی تجربات کے لئے مخصوص زمین، دیہاتی جاگیر، سرکاری زمین۔

جفخ: جَفَخَ ـَ جَفْخًا: تکبر کرنا۔ صفت: جَفّاخ۔ جَافَخَ ہ: کے مقابلہ میں فخر کرنا۔

جفر: ۱- جَفَرَ ـِ جَفْرًا و تَجَفَّرَ و اِسْتَجْفَرَ ولدُ الشاة: بکری کے بچے کا بڑا ہونا، اور بڑے پیٹ والا ہونا۔ ـــ الشیءُ: کشادہ ہونا، وسیع ہونا۔ الجَفْر (مص) جمع جِفار: کشادہ کنواں۔ الجُفْرَة جمع جُفَر و جِفار من الشیء: چیز کا درمیان۔ ـــ من الارض: گول پھیلی ہوئی زمین۔

۲- جَفَرَ ـِ جَفْرًا من المرض: بیماری سے نجات پانا۔ ـــ ما کان فیہ: کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ـــ صاحبَہ: ساتھی سے قطع تعلق کرنا، کے پاس جانا چھوڑ دینا۔

۳- الجَفْر: کہا جاتا ہے: فعلتُ ذلك من جَفْرٍ او من جَفْرِ کذا: میں نے اس کو اس کی وجہ سے کیا۔ فلانٌ منهدمُ الجَفْر: فلاں شخص اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا۔ علمُ الجَفْر (اسے علمُ الحُرُوف بھی کہا جاتا ہے)۔ وہ علم جس کے ماہرین کا دعوی ہے کہ وہ اس کے ذریعے فنائے عالم تک ہونے والے حالات اور واقعات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ الجفير: محض لکڑی یا محض چمڑے کا ترکش۔

○ عِلمُ الجَفْر: پیشین گوئی، علم غیب، قسمت کا حال بتانے کا علم۔ جُفْرَة جمع جُفَر: گڑھا، سوراخ، چھید۔

جفس: جَفِسَ ـَ جَفَسًا و جَفَاسَةً: کو بدہضمی ہونا۔ الجِفْس و الجَفْس و الجَفِيس: کمزور، کمینہ۔

جفظ: جَفَظَ ـِ جَفْظًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ اِجْفَاظَّ و اِجْفَأَظَّ اِجْفِيظَاظًا المقتولُ: مردہ لاش کا پھولنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

صفت: جَفِيظ۔

جفع: جَفَعَ جَفْعًا ہ: کو پچھاڑنا۔

جفل: ۱۔ جَفَلَ ـِ جُفُولاً و جَفْلاً البعيرُ: اونٹ کا بدکنا اور بھاگ جانا۔ صفت: جافِل و جَفّال۔ ـــ تِ النَّعامَةُ: شترمرغ کا بھاگ جانا۔ ـــ جَفْلاً الطائِرَ: پرندے کو ہشکانا (کہا جاتا ہے: جَفَلَ القَنّاصُ الوحش من مراعيها: شکاری نے وحشی جانوروں کو ان کی چراگاہوں سے بدکا کر بھگا دیا)۔ و تَجَفَّلَ و اِنْجَفَلَ القومُ: لوگوں کا تیز بھاگنا۔ جَفَّلَ ہ: کو بدکانا، خوفزدہ کرنا۔ أَجْفَلَ البعيرُ: اونٹ کا بدکنا، بھاگ جانا۔ تَجَفَّلَ الديكُ: مرغ کا گلے کے پروں کو پھلانا۔ الجَفُولُ جمع جُفُول: ہر چیز سے بدکنے والا شترمرغ۔ الإجْفِيل: بزدل۔

۲۔ جَفَلَ ـُ جُفُولاً و جَفْلاً تِ الريحُ: ہوا کا تیز چلنا۔ ـــ جَفْلاً تِ الريحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اڑا لیجانا۔ أَجْفَلَتِ الريحُ: ہوا کا تیز چلنا۔ الجَفْلُ (مص) جمع جُفُول: بارش کے بعد کا پانی سے خالی بادل۔ ريحٌ جَفُول جمع جُفُل و مَجْفِل و مِجْفَال: بادل کو اڑا لیجانے والی تیز ہوا۔

۳۔ جَفَلَ ـُ جَفْلاً و جَفَلَ الطينَ: مٹی کو بیلچے سے کھرچ لینا۔

۴۔ جَفَلَ ـُ جَفْلاً البحرُ السمكَ: سمندر کا مچھلی کو کنارے پر ڈال دینا۔ ـــ ہ: کو پچھاڑ دینا۔ ـــ المتاعَ: سامان پر سامان رکھ دینا۔ الجُفال: کناروں پر سیلاب کا ڈالا ہوا خس و خاشاک۔ الجُفالَة من القِدر: چمچ کے ذریعے ہانڈی سے نکالا ہوا جھاگ وغیرہ۔

۵۔ الجَفْلُ جمع جُفُول: ہاتھی کی لید، کشتی۔ الجُفْلَة: اون کا گچھا۔ الجَفْلة من الشجر: بہت پتوں والا درخت۔ الجُفال: دودھ کی جھاگ، بہت سی اون۔ الجَفِيل: بہت، کثیر، فصل اونچی ہونے پر ہلکا کرنے کے لئے اس کا وہ حصہ جو چھانٹ دیا جائے۔ الجَفَلَى: کسی اختصاص کے بغیر کھانے کی عام دعوت۔ کہا جاتا ہے: دُعِيَ فلانٌ في النَّقَرَى لا في الجَفَلَى: فلاں شخص کو خصوصی دعوت میں بلایا گیا نہ کہ عام دعوت میں۔

۶۔ الجَفَلَّق: بہت موٹی بوڑھی عورت۔

○ جَفَلَ ـِ جَفْلاً و جُفُولاً و اَجْفَلَ: بدکنا، بھڑکنا، چونک اٹھنا، دھک سے رہ جانا، خوف و دہشت سے اچھل پڑنا، (گھوڑے کا) بھڑکنا، بدکنا۔ جَفَّلَ ہ/ہ: چیز کو شروع کرنا، کسی کو جگانا، بیدار کرنا۔ ـــ ہ: کو ڈرا کر بھگا دینا۔ جَفْل و جُفُول: خوف، دہشت، بھڑک ـــ پڑنا، چونک پڑنا، بدکنا۔

جفن: ۱۔ جَفَنَ ـِ جَفْنًا نفسَه: اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا۔

۲۔ جَفَنَ ـِ جَفْنًا الناقةَ: اونٹنی کو ذبح کر کے اس کا گوشت بڑے بڑے پیالوں میں کھلانا۔ الجَفْنَة جمع جِفَن و جِفان و جَفَنات: بڑا پیالہ، چھوٹا کنواں۔

۳۔ جَفَنَ ـِ و تَجَفَّنَ الكرمُ: انگور کی بیل کا جڑ پکڑنا۔ الجَفْن جمع اَجْفان و جُفُون و اَجْفُن: واحد جَفْنة: انگور کی بیل کی جڑ یا ٹہنیاں۔ الجَفْنَة جمع جِفَن و جِفان و جَفَنات: شراب۔

۴۔ الجَفْن جمع اَجْفان و جُفُون و اَجْفُن: تلوار کی میان، اوپر نیچے کا پپوٹا۔

○ جَفْن جمع جُفُون و أَجْفان: پپوٹا۔ جَفْنَة جمع جِفان و جَفَنات: پیالہ، کاسہ، انگور کی بیل۔

جفا: ۱۔ جَفَا يَجْفُو جَفاءً و جَفاءَةً: ایک جگہ قرار نہ پکڑنا۔ ـــ جنبُهُ عن الفراش: بستر پر قرار نہ پانا۔ اَجْفَى الخيلَ: گھوڑے کو تھکا دینا اور چارہ نہ کھانے دینا۔ تَجَافَى: جگہ سے علیحدہ ہونا، جگہ پر نہ رہنا۔ کہا جاتا ہے: تَجَافَى السرجُ عن ظهر الفرس: زین گھوڑے کی پیٹھ سے ہٹ گئی۔ تَجَافَى جَنْبُهُ عن الفراش: اس کا پہلو بستر سے دور رہا۔ ـــ عن مكانه: پر قرار نہ پانا۔ اِجْتَفَى الشيءَ: کو اس کی جگہ سے ہٹانا، دور کرنا۔

۲۔ جَفَا يَجْفُو جَفاءً و جَفاءَةً الثوبُ: کپڑے کا موٹا، دبیز اور گاڑھا ہونا۔ اِسْتَجْفَى استجفاءً الشيءَ: کو موٹا یا کھردرا سمجھنا۔

۳۔ جَفَا يَجْفُو جَفاءً و جَفاءَةً عليه كذا: کسی پر کچھ گراں ہونا۔ ـــ جَفْواً و جَفاءً و جَفًا صاحبَهُ: سے اعراض کرنا، بدسلوکی کرنا۔ جَفّاہ: کو بداخلاق بنا دینا۔ جَافَى الرجلَ: سے بدسلوکی کرنا۔ اَجْفَى فلانًا: کو دور کرنا۔ اِسْتَجْفَى اِسْتِجفاءً ہ: سے دوری چاہنا۔ الجَفْوَة و الجِفوَة: اجڈپن، اکھڑپن، بدسلوکی۔ الجافِي جمع جُفاة مونث جافِيَة جمع جافيات و جَوافٍ: موٹا۔ جافِيُّ الخُلُق: اجڈ، بداخلاق۔

○ جَفَا ـُ جَفْواً و جَفاءً: کھردرا ہونا، گاڑھا ہونا، موٹا ہونا۔ ـــ ہ: سے درشتی سے پیش آنا، سختی سے پیش آنا، سے اعراض کرنا، سے بچنا، سے پہلو بچانا، کنی کترانا، سے پہلوتہی کرنا، بھاگنا۔ جَافَى ہ: سے سخت سلوک کرنا، سے گستاخی سے پیش آنا، سختی سے پیش آنا، پر ظلم [illegible] ہ: (عزت نفس، اپنے ذوق وغیرہ) کو ٹھیس پہنچانا۔ تَجَافَى عن: سے پیچھے ہٹنا، سے نفرت کرنا، بیزار ہونا۔ ـــ ہ: سے بچنا، سے پہلو بچانا، کنی کترانا۔ ـــ گستاخانہ تہذیب کا مظاہرہ کرنا، غنڈا پن کرنا۔ جَفْو: سختی، اکھڑپن، بدمزاجی، رکھائی، کھردراپن۔ جَفْوَة: اکھڑپن، کھردراپن، بدمزاجی، رکھائی، بے مہری، بیگانگی، کشیدگی، مفارقت، اجنبیت، اختلاف، نااتفاقی، ان بن، نزاع، جھگڑا۔ جَفاء: اکھڑپن، کھردراپن، بدمزاجی، رکھائی، سختی، سنگدلی، بے رحمی، نفرت، بیر، دشمنی، بدمزگی، ناپسندیدگی، بے مہری، بیگانگی، کشیدگی، مفارقت، اجنبیت۔ اَجْفَى إلى: سے زیادہ بازرہنے والا، منہ پھیرنے والا، بچنے یا ہٹنے والا۔ جافٍ جمع جُفاة: سخت، کھردرا، گاڑھا، موٹا، گاؤدی، گھامڑ، گنواروں کا سا، غیرمہذب، گستاخ، سخت۔

جفى: جَفَى ـِ جَفْيًا الرجلَ: کو پچھاڑ دینا۔ ـــ و اِجْتَفَى النباتَ: پودے کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔

جقّ: جَقَّ ـُ جَقًّا الطائرُ: پرندے کا بیٹ کرنا۔

جكر: جَكِرَ ـَ جَكَرًا و اَجْكَرَ: بیچنے میں اصرار کرنا۔

○ جَاكَرَه: کو دق کرنا، تنگ کرنا، ستانا، سے چھیڑ خانی کرنا، کے پیچھے پڑنا، کے گلے کا ہار ہو جانا۔

جلّ: ۱۔ جَلَّ ـِ جَلالاً و جَلالَةً: عمر میں بڑا ہونا۔ صفت: جليل جمع اَجِلّاء و اَجِلَّة و جِلّة و جِلّ و جَلّ و جَلال و جُلّال۔ الجِلّ: عمر میں بڑا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ جِلٌّ: سن رسیدہ آدمی۔

۲۔ جَلَّ ـِ و تَجالَّ عن كذا: سے کہیں بالا ہونا، بالاتر ہونا، اپنے کو کسی چیز سے بالا سمجھنا۔ اَجَلَّ اجلالاً ہ عن العيب: کو برائی سے بالا سمجھنا یا قرار دینا۔

۳۔ جَلَّ ـِ جَلالاً و جَلالَةً: جسم میں بڑا ہونا، بڑی شان والا ہونا۔ آپ کہتے ہیں: جَلَّ فلانٌ في عيني: فلاں شخص میری نظر میں بڑے مرتبے والا ہو گیا۔ جَلَّلَ الرجلَ: کی تعظیم بجا لانا۔ اَجَلَّ اجلالاً ہ: کی تعظیم کرنا۔ تَجالَّ عليه: سے بڑا بننا۔ تَجَلَّلَ: بڑا بننا۔ الجُلّ: موٹا، بھاری۔ الجِلّ: بہت۔ کہتے ہیں: ماله دِقٌّ ولا جِلٌّ: اس کے پاس تھوڑا ہے نہ بہت۔ الجَلَل من الأمور: بڑا معاملہ، سہل اور آسان امر۔ کہا جاتا ہے: فعلتُه مِن جَلَلِك و من اِجلالِك و من تجلّتِك: میں نے تمہاری خاطر اور تمہاری تعظیم کے لئے یہ کیا۔ الجُلّة جمع جِلال و جُلَل: بڑا ٹوکرا۔ جِلّة (جليل کی جمع): کہا جاتا ہے: قومٌ جِلّة: بڑے اور سردار لوگ۔ الجُلَّى جمع جُلَل (الأَجَلّ کا مونث): بہت بڑا، سخت کام، بڑا معاملہ۔ التَجِلّة:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بزرگی وعظمت۔ المَجَلّة پُرحکمت مقالہ، رسالہ، کاپی۔

۴۔ جَلَّ ـُ جَلاًّ و جَلَّةً و اِجْتَلَّ الشَّیَ چیز کے بڑے حصہ کو لینا۔ جُلُّ الشَّیِ چیز کا بڑا اور کثیر حصہ۔ البیت خیمہ نصب کرنے کی جگہ۔ الجَلُّ من الارض جمع الجَلائِل دیوار اور جانی ہوئی حدود کا قطعہ زمین۔

۵۔ جَلَّ ـُ جُلُولاً و جَلاًّ اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلا جانا۔ صفت جالّ جمع جَالَّة الجَالَّة اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا بسنے والے لوگ۔

۶۔ جَلَّ ـُ جَلاًّ و جَلَّةً و اِجْتَلَّ البعرَ مینگنیاں چننا، اٹھانا۔ الجِلَّة (تثلیث الجیم) مینگنی۔

۷۔ جَلَّ ـُ جَلاًّ الفرسَ گھوڑے پر جھول ڈالنا۔ جَلَّلَ الشَّیَ چیز کا عام ہونا۔ — الشَّیَ چیز کو ڈھانپنا، اسی سے ہے: جَلَّلَ المطرُ الارضَ بارش نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ — الفرسَ گھوڑے پر جھول ڈالنا۔ تَجَلَّلَ بالثوبِ کپڑا اوڑھنا۔ — ہ پر غالب ہونا۔ الجُلُّ جمع جلال و أَجْلال جانور کا جھول۔ الجَلُّ جمع جُلُول بادبان۔ — جمع جلائل اجلال جانور کا جھول۔ الجَلُّ من المتاع قالین، کمبل، چادریں وغیرہ۔ المُجَلِّل (فا) سحاب مُجَلِّل ہمہ گیر بارش برسانے والا بادل۔ امرٌ مُجَلِّلٌ عام معاملہ۔

۸۔ اَجَلَّ اِجْلالاً عمروٌ زیداً عمرو کا زید کو بہت دینا۔ کہا جاتا ہے: اتیتُ فلاناً فَمَا اَجَلَّنِی و ما اَدَقَّنِی میں فلاں شخص کے پاس گیا تو اس نے مجھے نہ زیادہ دیا نہ تھوڑا۔

۹۔ اَجَلَّ اجلالاً الرجلُ قوی ہونا، کمزور ہونا (ضد)۔

۱۰۔ الجَلُّ جمع جُلُول (واحد جَلَّة) (ن) چنبیلی، سفید، سرخ یا زرد گلاب کا پھول۔

○ جَلَّ ـِ جَلالاً عظیم ہونا، بلند مرتبہ یا بلند پایہ ہونا، سرفراز ہونا، ممتاز ہونا، مشہور و معروف ہونا، نامور ہونا، عالی مرتبہ ہونا، گرامی قدر ہونا، ذی شان ہونا، عالی وقار ہونا، بلند و رفیع ہونا، برتر ہونا۔ — عن کے لئے بہت بڑا ہونا، سے ماورا ہونا، سے بلند تر و بالاتر ہونا۔ جَلَّ عن الحصر ان گنت ہونا، بیشمار ہونا۔ جَلَّلَ ہ کا ادب کرنا، کی عزت کرنا، کی تعظیم کرنا، کو ممتاز کرنا، کو سرفراز کرنا، کی عزت بڑھانا، کی تکریم کرنا، کو حرمت دینا، کو بلند کرنا، اونچا کرنا۔ — کو ڈھانپنا (جیسے زمین کو پودوں کا یا برف کا)۔ — ہ بہ کسی چیز سے حاشیہ لگانا، گوٹ لگانا، سنجاف لگانا، کی سے حد بندی کرنا، سے کسی چیز سے متصل ہونا، پر سے جھالر لگانا، کا سے کنارہ بنانا۔ — ہ کو ملفوف کرنا، چھپانا، کو کپڑے سے آراستہ کرنا، کو کپڑا اوڑھانا یا پہنانا۔ اَجَلَّ ہ کا ادب کرنا، کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، کو حرمت دینا، کی تعظیم و تکریم کرنا، کا احترام کرنا، کو عزیز رکھنا، کی بہت عزت کرنا، کو ممتاز کرنا، سرفراز کرنا، کو بلند کرنا، کا درجہ یا منصب بڑھانا۔ — عن کے لئے بہت اونچا سمجھنا، کو سے بہت بالا و بالا خیال کرنا۔ — تَجالَّ عن خود کو سے بالا یا بالاتر سمجھنا۔ اِسْتَجالَّ بڑا ہونا، عظیم ہونا، سرفراز ہونا، بلند ہونا، رفیع ہونا، برتر ہونا۔ جَلّ بڑا، ممتاز، بھاری، قدآور۔ جُلّ بڑا حصہ، کثیر تعداد، بڑائی، بزرگی۔ جُلُّہ کی اکثریت۔ جُلُّ ما فیہ اس کے بڑے مضامین، اس کے بڑے محتویات۔ و جُلُّ ما یقال انہ کم از کم اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ۔ جَلَل اہم، بہت اہم، بوجھل۔ جُلَّی جمع جُلَل بڑی اہمیت کا معاملہ، بہت اہم کام، بڑا کارنامہ، کارنمایاں۔ جُلَّة و جِلّة گوبر، لید۔ جُلَّة جمع جُلَل بم، توپ کا گولہ۔ جُلَّة پوشاک، لباس۔ الجُلَّة الحَبْرَوِیَّة (الکَهنوتیّة) پادری (پادریانہ) خصلتیں، پوشاکیں۔ جَلیل جمع اَجِلاّء و اَجِلَّة و جِلال بڑا، اہم، بوجھل، ضروری، مہتم بالشان، بلند، بالا، رفیع، سرفراز، برتر، پرجلال، محترم، قابل احترام، مقدس، شاندار، عالیشان، پرشکوہ۔ جَلال بلندی، جلال، بڑائی، بڑی شان، اعلیٰ مرتبہ، طمطراق، چمک دمک، درخشانی، جلوہ بزرگی، عظمت، شانِ کبریائی۔ جَلالَہ شان و شوکت، سربلندی، رفعت، بلندی، شان، جاہ و جلال، کروفر، عظمت، شاہی منصب، صاحب (صاحبۃ) الجلالۃ حضور پرنور، ملک معظم، جہاں پناہ، اعلیٰ حضرت (علیا حضرت) ولی نعمت۔ جلالۃ الملِك (جلالۃ المَلِکۃ)۔ جلالۃُ المَلِك اعلیٰ حضرت (علیا حضرت)، جہاں پناہ بادشاہ۔ اَجَلّ زیادہ بڑا، زیادہ بلند، زیادہ شاندار۔ مَجَلّة جمع مَجَلّات اخبار، رسالہ وغیرہ، میگزین، ریویو (review)۔ مَجَلّة اُسبوعیّة ہفت روزہ، ہفتہ وار رسالہ۔ مجلۃ شھریّة ماہنامہ۔ مَجَلّة خاصّة بہ کے لئے پیشہ ورانہ رسالہ۔ مَجَلّة الأحکام قانون کی کتاب، ضابطہ، قانون، مجموعہ قوانین۔ مَجَلّة القوانین: بمعنی مجلّة الأحکام تَجِلّة و اِجلال ادب، عزت، احترام، امتیاز، تعظیم، لحاظ، پاس ...

جلا: جَلَّ ـُ جَلاًّ و جَلاًّ و جَلاءةً ہ: کو پچھاڑ دینا، زمین پر گرا دینا۔ — بالثوب کپڑے کو پھینک دینا۔

جلب ا۔ جَلَبَ ـُ جَلْباً و جَلَباً الرجلُ ہانکا جانا۔ — ہ کو ہانک کر لانا۔ — و أَجْلَبَ لاهلِہ اہل و عیال کے لئے کمانا۔ اِنْجَلَبَ ہانکا جانا۔ اِجْتَلَبَ ہ کو لانا، لے کر آنا۔ اِسْتَجْلَبَ ہ کو لانے کا باعث ہونا، یا اس کو لانے کا طالب ہونا۔ جَلَبُ الرَّحْلِ و جُلْبُہ کجاوے کی لکڑیاں۔ الجَلَب (مص) جمع أَجْلاب درآمدی مال۔ الجُلْبَة جمع جُلَب پالان پر لگایا جانے والا چمڑہ۔ الجَلُوب بار برداری کے اونٹ (واحد و جمع کے لئے یکساں)، درآمدی مال۔ الجلیب جمع جَلْبَی و جُلَباء لایا ہوا۔ کہا جاتا ہے: عبدٌ جَلیبٌ و امرأةٌ جلیبٌ و جَلیبَة درآمد شدہ غلام، کہیں سے لائی ہوئی عورت۔ جمع جَلْبَی و جَلائب لائی ہوئی۔ الجَلیبة جمع جَلائب لائی ہوئیں۔ الجَلّاب غلاموں کو ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لئے لیجانے والا۔ المَجْلَبَة کسی شئے کو حاصل کرنے کا سبب یا اسے لانے پر اکسانے والا اور اس کی دعوت دینے والا۔ الجُلُبّان چمڑے کا تھیلا۔

۲۔ جَلَبَ ـِ و أَجْلَبَ القومُ لوگوں کو جمع کرنا۔ — القومُ لوگوں کا جنگ کے لئے ہر طرف سے آ کر اکٹھا ہونا، شور و غل مچانا اور ان کی آوازوں کا گڈمڈ ہو جانا۔ — علی الفرسِ گھوڑے کو ڈانٹنا، ڈپٹنا اور گھوڑ دوڑ پر اکسانا۔ جَلِبَ ـَ جَلَباً اکٹھا ہونا۔ جَلَّبَ القومُ لوگوں کا چیخنا اور شور و غل کرنا۔ — علی الفرسِ گھوڑے کو ڈانٹنا، ڈپٹنا۔ الجَلَب و الجَلَبَة شور و غل، غل غپاڑہ، شور و غوغا۔ الجَلّاب و المُجَلِّب چلانے والا، بکواسی، بدخلق۔ رجلٌ جُلُبّان و جَلَبّان شور مچانے والا آدمی۔

۳۔ جَلَبَ ـِ و أَجْلَبَ ہ کو دھمکانا۔

۴۔ جَلَبَ ـِ جَلْباً و جَلَباً الدمُ خون خشک ہونا۔ — الجرحُ زخم کا اچھا ہونا۔ اَجْلَبَ الدمُ خون کا خشک ہونا۔ الجُلْبَة جمع جُلَب کھرنڈ۔

۵۔ جَلَبَ ـِ جَلْباً علیہ کے خلاف جرم کرنا، گناہ کرنا۔ الجَلْب (مص) گناہ، جرم۔

۶۔ الجُلْب پانی سے خالی بادل، پہاڑ کی طرح پھیلا ہوا بادل، رات کی تاریکی۔ الجُلْبَة جمع جُلَب سخت پتھر جن میں جانوروں کے لئے رستہ نہ رہے، گھاس کے متفرق قطعے، سبز کانٹے دار درخت، بادل کا ٹکڑا۔ جُلْبَةُ الشتاء کڑاکے کی سردی۔ الجَلَبَة

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(طب): ایک قسم کی جڑی بوٹی کی جڑ جو قبض کشا ادویہ تیار کرنے کے کام آتی ہے۔ الجُلاب و الجُلّاب: عرق گلاب میں شہد یا شکر سے تیار کیا ہوا شربت، عرق گلاب (فارسی لفظ)۔ الجُلُبان و الجُلْبان (ن): ایک قسم کا پودا جسے دانوں، گھاس یا مختلف رنگ کے پھولوں کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔

۷۔ جَلْبَبَ ہ و تَجَلْبَبَ: کو چادر یا قمیص پہنانا اور اس کا چادر یا قمیص پہننا۔ الجِلْبَاب و الجِلِبّاب جمع جلابیب: قمیص یا چادر۔

○ جُـلاب و جُلّاب: عرق گلاب، جلاب، شربت گلاب۔

○ جِلاتین: جیلی، مربع نما مٹھائی، جمائی ہوئی چمکدار اور نرم مٹھائی (jelly)۔

○ جَلابِیة: بکری کے بچہ کا چمڑا۔

○ جَلَبَ ـجَلْبًا ہ: کوشش کرنا۔ ہ لِ: کو کے پاس لے کر آنا، لے آنا، لانا، کوئی چیز کسی کو فراہم کرنا۔ ہ: (سامانِ تجارت یا مال تجارت) درآمد کرنا؛ (کسی حالت وغیرہ) کا باعث ہونا۔ ہ علی: کسی کو پہنچنے والی تکلیف، شرمساری وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔ ہ: کو حاصل کرنا، جیتنا، کو کمانا، کا کسب کرنا۔ جـلـوبًا: زخم کا مندمل ہونا، (زخم پر) کھرنڈ آنا۔ جَـلَّبَ: شور وغل کرنا، چیخنا، چیخ و پکار کرنا، چلانا، شور مچانا، ادھم مچانا۔ اَجْـلَبَ ہ: کو کمانا، حاصل کرنا، پانا، کا مالک بننا، کا اکتساب کرنا، شور مچانا، چیخ و پکار کرنا، ادھم مچانا۔ اِنجَلَبَ: جلب کا معنی مجہول کا صیغہ۔ یعنی کھنچا جانا، آنا، فراہم ہونا۔ اِجْـتَـلَبَ ہ: کو لے کر آنا، لانا، حاصل کرنا، کا سبب ہونا، کا کش لینا، (مال تجارت) کو درآمد کرنا۔ اِسْتَجْلَبَ ہ: (مال تجارت) کو درآمد کرنا۔ ہ: کو لے کر آنا، کو بلوانا، بلانا، بلا بھیجنا، کی خدمات طلب کرنا۔ ہ/ ہ: کوشش کرنا، کو لانا، کو کشش کرنا یا جیتنا چاہنا۔ ہ: کو حاصل کرنا، کا سبب ہونا۔ جُـلْـب: لانا، لے کر آنا، حصول، فراہمی، اکتساب، تحصیل، درآمد کی اشیاء، درآمد، سبب بننا، سبب ہونا، کا باعث ہونا، شروع کرنا، سلسلہ چھیڑنا۔ جَلَب: درآمدہ، غیر ملکی۔ جَـلَب و جَلَبَة: شور وغل، ہنگامہ، شورش، بلوہ، دنگا، شور غوغا، اچھل، کھلبلی، اضطراب۔ جُلْبَة: کھرنڈ، زخم کا نشان۔ جَـلِـیب: درآمدہ، غیر ملکی جمع جُلَبَاء و جَلْبَی: غیر ملکی غلام۔ جَلّاب: دلکش، دلربا، گرویدہ کرنے والا، دل موہ لینے والا، فریفتہ کرنے والا، درآمد کنندہ، تاجر، بیوپاری۔ جَلّاب العَبِید: لونڈی غلاموں کا تاجر۔

جَلّابِیّة جمع جلابیات و جلالیب: مصر میں ڈھیلا ڈھالا قمیص کا سا مردوں کا عام لباس۔ جـلـبـاب: دیکھئے جلب میں۔ اَجْـلَـب: زیادہ دلکش، زیادہ موہ لینے والا، زیادہ فریفتہ کرنے والا، زیادہ دلربا، زیادہ گرویدہ کرنے والا۔ مَجْلَبَة جمع مَجَالِب: سبھی عامل، وجہ تحریک، منشا، مقصد، وجہ، موجب، سبب، باعث، علت، موقع۔ اِسْتِجلاب: فراہمی، حصول، اکتساب، تحصیل، درآمد، اشیائے درآمد، بہم پہنچانا، مہیا کرنا، حاضر کرنا، منگا دینا، کشش۔ اِسـتـجـلاب السائحین: سیاحوں کی حمل ونقل کا فروغ۔ جَالِب: بمعنی عامل، عامل، وجہ تحریک، منشاء، مقصد، وجہ، سبب، باعث، موقع۔ جُلّاب: عرق گلاب، گلاب کا شربت۔ جَـلْـبَـا: گل عباسی کی جڑ جو مسہل کا کام دیتی ہے۔

○ (جَلْبَبَ) ۔ تَجَلْبَبَ ب: سے ملبوس ہونا۔ جِلْباب جمع جَلابِیب: لباس، پوشاک، شلوار، عورتوں کا لباس، سایہ، جبہ، چغا۔ جُـلْـبـان: پھلی دار پودے جو چارے کے کام آتے ہیں، مٹر کا پودا۔

جلت: جَلَتَ ـجَلْتًا و اِجْتَلَتَ ہ: کو مارنا، پیٹنا۔

جلجل: ۱۔ جَلْجَلَ الرجلُ: زور سے آواز نکالنا، چیخنا۔ ـ السحابُ: بادل کا گرجنا ـ البعیرَ: اونٹ پر گھونگرو لٹکانا، اونٹ کے جھانجھ باندھنا۔ الجَلاجِل واحد جُلْجُل: گھونگرو۔ الجَلْجَلَة (مص): بادل کی گرج، کڑک، گھنٹی کی جھنکار۔ المُجَلْجِل: قوی سردار، دور تک پہنچنے والی آواز والا۔ المُجَلْجَل: گرجنے کڑکنے والا بادل۔

۲۔ جَلْجَلَ الوترَ: تانت کو مضبوط باندھنا۔

۳۔ جَلْجَلَ ہ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ تَجَلْجَلَ: حرکت کرنا۔ ـ فی الارض: زمین میں دھنسنا۔ ـ ت قواعدُ البیت: گھر کی بنیادوں کا ہل جانا۔ ـ الامرُ فی نفسه: دل میں کسی خیال کا کھٹکنا۔ جَلاجِل النفس: دل میں کھٹکنے والے خیالات۔ آپ کہتے ہیں بَثَثْتُهُ جَلاجِلَ نفسی: میں نے اس پر اپنے دل کی باتیں کھول دیں۔

۴۔ الجُلْجُل و الجُلاجِل: پھرتیلا، تیز دست، کام میں چست۔ الجُلْجُلَة: عبرانی لفظ بمعنی جُمْجُمَة جو اس پہاڑ کا نام ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ المُجَلْجَل: بے عیب ظریف۔ ـ من الاعداد: بڑی تعداد۔ الجُلْجُلان (ز): دھنیے کے دانے، کشنیز، تل، کنجد۔ جُلْجُلانُ الشیءِ … جُلْجُلانُ القلب: سویدائے قلب، دل کا مرکز۔ کہتے ہیں خرج من جُلْجُلانِ القلب الی قمع الاذن: دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔

○ جَلْجَلَ: گونجنا، واپس مرتعش ہونا، کی گونج پیدا کرنا، اونچی اور صاف آواز دینا، کھڑکھڑانا، جھن جھن کرنا۔ ہ: کو زور زور سے ہلانا۔ جُلْجُل جمع جَلاجِل: چھوٹی گھنٹی، گھوڑے کے ساز کی گھنٹی، گائے کے گلے کی گھنٹی، جھنکار، چھن چھن، چھناکا۔ جَلْجَلَة: گھنٹی کی آواز بلند اور تیز آواز۔ مُجَلْجِل: تیز، تیکھی، بہت اثر کرنے والی (آواز وغیرہ) بجنے والی، بجتی ہوئی، گونج دار، صدا دینے والا، گونجنے والا، منعکس ہونے والا۔ جُلْجُلَة و جُلْجُلَة الجبل: پہاڑ جس پر حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکانے کا اعتقاد کیا جاتا ہے Golgotha۔ جُلْجُلان: تل، کنجد، ہم ہم۔

جلح: جَلِحَ ـجَلَحًا: سر کے دونوں جانب سے بالوں کا گرنا صفت أَجْلَح جمع جُلْح و اجلاح و جُلْحان مونث جَلْحَاء۔ ـ الثورُ: بیل کا بے سینگوں والا ہونا۔ ـ ت القُری: بستیوں کے حفاظتی قلعوں کا باقی نہ رہنا۔ بقرة جَلْحَاء: بے سینگوں کی گائے۔ قریة جَلْحَاء: بے قلعہ والی آبادی۔ سطوحٌ جَلْحَاء: کھلی چھتیں جن کے اطراف میں کوئی دیوار یا روک نہ ہو۔ الجَلَحَة: سر کے دونوں جانب بال گرنے کی جگہ۔

۲۔ جَلَحَ ـجَلْحًا ت الارضَ: زمین کی گھاس کا چر لیا جانا۔ جُلِحَت الارض: زمین کی گھاس کا چر لیا جانا۔ ـ الشجرة: درخت کی شاخوں کا کھا لیا جانا۔ جَلَحَ ـجَلْحًا و جَلَّحَ ت الماشیةُ الشجرَ: مویشیوں کا درخت کے اوپر کے حصہ کو چر جانا۔ اَرْض جَلْحَاء: بے درخت زمین، بنجر زمین جو روئیدگی نہ اگائے۔ جَالِحَة جمع جَوالِح: سخت قحط زدہ۔ المُجَلِّح: بہت کھانے والا، پیٹو۔ المُجَالِح و المِجْلاح و المُجَلِّحَة جمع مَجَالِیح: جاڑے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ المَجَالِیح: مال کو تباہ کرنے والے بربادی کے سال۔

۳۔ جَلَّحَ علی الشیءِ: زبردست پیش قدمی کرنا۔ ـ فی الامر: کا پختہ ارادہ کرنا۔ ـ السبعُ علی القوم: لوگوں پر درندے کا کود پڑنا، حملہ کرنا۔ جَالَحَ بالشیءِ: کو صاف اور کھلے طریقے سے کرنا۔ ہ: سے کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ الجُلّاح: تباہ کن سیلاب۔ المَجَالِح (فا): شیر۔

۴۔ الجَوالِح (ز): روئی کی مانند ایک شے جو بن کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سرے سے نکل کر اڑتی یا گرتی ہے۔ ایک دوسرے پر گرنے والے برف کے ٹکڑے۔

○ جَلِخَ ـَ جَلَخًا: بے پروبال، لنڈورا یا گنجا ہونا یا ہو جانا۔ اَجْلَخُ مونث جَلْخَاءُ جمع جُلْخٌ: گنجے سر والا، بے پروبال، لنڈورا۔

جلخ: ۱۔ جَلَخَ ـَ جَلْخًا السیلُ الوادیَ: سیلاب کا وادی کو پانی سے بھر دینا، وادی کے کناروں کو توڑ دینا۔ الجُلاخُ: زبردست سیلاب، گہری وادی۔

۲۔ جَلَخَ ـَ جَلْخًا الشیءَ: کو کھینچنا، دراز کرنا۔ ـ بہ: کو پچھاڑ دینا۔

۳۔ جَلَخَ ـَ جَلْخًا ہ بالسیف: کے گوشت میں سے تلوار کے ذریعے کچھ کاٹ لینا۔

۴۔ جَلَخَ و جَلَّخَ الموسی: استرے کو تیز کرنا، صیقل کرنا۔ مَجْلَخ (حی): چھریاں وغیرہ تیز کرنے اور تانبے وغیرہ کو صیقل کرنے کا آلہ۔

۵۔ اِجْلَخَ الشیخُ: بوڑھے کا کمزور ہو کر ڈھیلے اعضاء والا ہونا۔

○ جَلَخَ ـَ جَلْخًا و جَلَّخَ ہ: کو تیز کرنا ــ ہ: چاقو وغیرہ کو سان پر لگانا، استرا چمڑے پر تیز کرنا، (دھات) کو پھیلانا، بڑھانا، لمبا کرنا، بیلنا۔ جَلْخ: سان، سلی، سان کا پتھر۔

جلد: ۱۔ جَلَدَ ـِ جَلْدًا ہ بالسوط: کو کوڑے مارنا۔ جَالَدَہ بالسیف: کو تلوار سے مارنا، سے جنگ کرنا۔ تَجَالَدُوا و اِجْتَلَدُوا بالسیوف: باہم تلواروں سے لڑنا۔ الجَلّادُ: کوڑے سے مارنے والا، تلوار سے مارنے والا، عموماً سزا دینے والا۔ المِجْلَدُ و المِجْلادُ جمع مَجَالِدُ و مَجَالِیدُ: کوڑا، چمڑے کا ٹکڑا جس کو نوحہ کرنے والی اپنے منہ پر مارا کرتی تھی۔ المِجْلَدَۃُ: کوڑا۔ فرسٌ مُجَلَّدٌ: کوڑے سے نہ ڈرنے والا گھوڑا۔

۲۔ جَلِدَ ـَ جَلَدًا و جُلِدَ و أُجْلِدَ المکانُ: کسی جگہ پالا پڑنا۔ صفت: مَجْلُود۔ الجَلَدُ (مص): آسمان یا نیلا گنبد۔ الجَلِیدُ جمع جُلَداءُ و جِلادٌ و جِلَدٌ: پالا، ریفری جریٹروں وغیرہ میں جمی ہوئی برف۔ الجَلادَۃُ: اونچے پہاڑوں پر برف کے تودے۔

۳۔ جَلُدَ ـُ جَلادَۃً و جُلُودًا و جَلَدًا و مَجْلُودًا الرجلُ: صبر و استقلال اور قوت والا ہونا۔ تَجَلَّدَ: مضبوطی دکھانا، صبر و استقلال کا اظہار کرنا۔ الجَلْدُ جمع أَجْلاد مونث جَلْدَۃ: مضبوط، قوی۔ الجَلَدُ و الجَلادَۃُ: قوت، سختی، کرختگی، صبر، سخت زمین۔ الجَلِیدُ جمع جُلَداءُ و جِلادٌ و جِلَدٌ: قوی اور صابر، چالاک۔ الجِلادُ: کھجور کے بڑے بڑے اور سخت درخت، بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں۔

۴۔ جَلَدَ ـِ جَلْدًا بہ الارضَ: کو زمین پر پٹکنا ــ ہ علی الامر: کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ أَجْلَدَہ إلیہ: کو کا محتاج بنانا، کو پر مجبور کرنا۔

۵۔ جَلَّدَ الکتابَ: کتاب کی جلد بندی کرنا۔ الجَزُورَ: جانور کی کھال اتارنا۔ الجِلْدُ جمع أَجْلاد و جُلُود: کھال ــ و الجِلْدَۃُ جمع جِلَد: کھال کا ٹکڑا یا قسم۔ کہا جاتا ہے: ھم مِن جِلْدَتِنا: وہ ہمارے ہی خاندان کے ہیں۔ ھم ابناءُ جِلْدَتِہ: وہ اسی کے خاندان سے ہیں۔ الجَلَدُ: بمعنی جِلْد۔ الجَلّادُ: کھال بیچنے والا۔ عظمٌ مُجَلَّدٌ: صرف کھال لگی ہوئی ہڈی۔ أَجْلادُ و تَجالیدُ الإنسانِ: انسان کا جسم اور اعضاء۔ آپ کہتے ہیں: ما أشبہ اجلادَ فلان باجلاد ابیہ: فلاں شخص کے اعضاء بدن اس کے باپ کے اعضاء سے کس قدر ملتے جلتے ہیں۔

۶۔ اِجْتَلَدَ الإناءَ: برتن کا سارا پانی وغیرہ پی جانا۔

○ جَلَدَ ـِ جَلْدًا ہ: کو کوڑے مارنا، چابک مارنا، کوچی یا بید سے مارنا، چھڑی سے مارنا۔ جَلِدَ ـَ جَلَدًا: جمنا، منجمد ہونا، جم کر برف ہو جانا۔ جَلُدَ ـُ: سخت ہونا، مضبوط ہونا، ثابت قدم ہونا، پختہ ہونا، استوار ہونا، صابر ہونا، متحمل ہونا، مستقل مزاج ہونا، بے خوف ہونا۔ جَلَّدَ ہ: (کتاب وغیرہ کی) جلد باندھنا، کسی چیز کو برف بنانا۔ جَالَدَہ: کے ساتھ لڑائی کرنا۔ أُجْلِدَ: جمنا، منجمد ہونا، جم کر برف ہو جانا، برف پوش ہونا۔ تَجَلَّدَ: کمر ہمت باندھنا، اپنے آپ کو سخت، مضبوط یا تنومند ظاہر کرنا، سمجھ دار ظاہر کرنا، صبر و استقلال پر راضی ہونا، برداشت کرنا، جھیلنا۔ تَجالَدَ: تلوار کی لڑائی میں مشغول ہونا۔ جَلْد: کوڑے، چابک وغیرہ مارنا ــ جمع أَجْلاد: پکا، سرگرم، پُرجوش، ہٹا کٹا، قوی ہیکل، ثابت قدم، قوی، مضبوط۔ جِلْد جمع جُلُود و أَجْلاد: کھال، ادھوڑی، چمڑا، چرم۔ جلد سُخْتِیان: مراکولیدر (morocco)۔ جلد لَمّاع: نرم چمکدار چمڑا patent leather۔ جِلْدَۃ: کھال، ادھوڑی، چمڑے کا ٹکڑا، نسل۔ ابنُ جِلْدَتِنا: ہمارا ہم وطن، ہمارے گاؤں کا، ہمارا ہم قبیلہ شخص۔ جمع بنو جِلْدَتِنا۔ جِلْدی: کھال کا، جلد کے متعلق، جلدی امراض کے بارے میں۔ امراض جِلْدِیَّۃ: جلد کی بیماریاں۔ جُلَیْدَۃ جمع جُلَیْدات: جھلی، باریک جھلی یا

بردباری، تحمل کی قوت، پائیداری، سہنا، جھیلنا، برداشت کرنا، استقلال، ثابت قدمی۔ جَلْدَۃ: چابک یا کوڑے کی ضرب۔ جَلِید جمع جُلَداء: پکا، مضبوط، پختہ، سرگرم، کٹر، پرجوش، زور آور، مضبوط جسم کا، گٹھا ہوا۔ جَلِید: برف۔ جبلُ جَلِید: برف کا تودہ، برف کی چٹان جو سمندر میں بہتی ہوئی آئے۔ قطعۃ من الجلید: برف کا تیرتا ہوا تودہ ice floe۔ جَلِیدی: برف کا، برف کے متعلق، برف پوش، برفانی۔ العصر الجلیدی: برف کا زمانہ، برفانی دور۔ جَلُود: صابر، صبر سے برداشت کرنے والا۔ جَلّاد جمع جَلّادون: چمڑے کا بیوپاری، جلاد، پھانسی پر لٹکانے والا۔ جَلادَۃ و جُلُودَۃ: صبر و استقلال، برداشت، حوصلہ۔ مِجْلَدَۃ: کوڑا، چابک، تازیانہ، درہ۔ تَجْلِید: برف بنانا، جلد سازی، جلد بندی۔ جِلاد: لڑائی، جنگ۔ تَجَلُّد: صبر، برداشت، حوصلہ۔ مُجَلِّد الکتب: جلد ساز۔ مُجَلَّد: برف بنا ہوا، برف کا، برفانی، برف پوش، جلد بندھی ہوئی (کتاب وغیرہ) جمع مُجَلَّدات: کتاب (کتاب کی ایک) جلد۔ مُجالِد جمع مُجالِدون: تماشہ گر، مُبارز (gladiator)۔ مُتَجَلِّد: صابر۔

جلذ: ۱۔ اِجْلَوَّذَ اِجْلِوّاذًا: تیزی سے گذرنا ــ اللیلُ: رات کا گزر جانا ــ بھم السیرُ: لوگوں کا تیزی سے چلتا رہنا۔

۲۔ اِجْلَوَّذَ اِجْلِوّاذًا اللیلُ: رات کا دراز ہونا ــ المطرُ: بارش کا وقت گزرنے پر بھی برستا رہنا۔

۳۔ الجُلَذُ جمع مَناجِذ (دوسرے لفظ سے): (ح) چھچھوندر۔ الجُلْذِیّ و الجُلاذِیّ جمع جَلاذِیّ: گرجے کا خادم، راہب، پادری، کاریگر۔ الجُلْذِیّ و الجِلْوَذ: موٹا مضبوط اونٹ۔

○ جِلَّوْذ واحد جِلَّوْذَۃ: ایک پھل دار جھاڑی جس کے پھل کی گری کھائی جاتی ہے۔ اس پھل کی گری۔

جلز: ۱۔ جَلَزَ ـِ جَلْزًا الرأسَ: سر پر پٹی باندھنا ــ الشیءَ إلی الشیءِ: ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا ــ و جَلَّزَ السِکّینَ: چھری کا دستہ باندھنا۔ جِلْزُ السِنانِ: بھالے کے نیچے کا گول حصہ۔ الجِلازُ جمع جَلائِز: کوڑے کے کنارے پر بندھا ہوا تسمہ۔ المَجْلُوزُ: محکم، مضبوط۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مَجْلُوزُ العملِ: فلاں شخص کا کام محکم ہے، وہ مضبوط کام کرتا ہے۔

۲۔ جَلَّزَ الرجلُ: جلدی چلنا، تیز چلنا۔ جَلَّوْزَ بین یدی الامیر: حاکم کے سامنے آنے جانے میں چستی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

دکھانا۔ تَجَلْوَزَ للأمر: کسی کام کے لئے تیار ہونا، مستعد ہونا۔ الجَلْوَزَۃ: آمدورفت میں چستی، پھرتی۔ الجِلْوَاز جمع جَلاوِزَۃ: حاکم کے سامنے جانے آنے میں تیز قدم، سپاہی۔

۳۔ الجِلْوَزُ: قوی ہیکل، بہادر۔

جلس: ۱۔ جَلَسَ ـ جُلُوسًا و مَجْلَسًا: بیٹھنا۔ صفت: جالِس جمع جُلُوس و جُلَّاس۔ جَلَّسَ و أَجْلَسَ ہ: کو بٹھانا۔ جَالَسَ مُجَالَسَۃً ہ: کے ساتھ بیٹھنا۔ اِسْتَجْلَسَ ہ: سے بیٹھنے کو کہنا۔ الجَلْس: سخت زمین۔ بلند زمین، بڑی سخت چٹان۔ کہا جاتا ہے: جمل جَلْسٌ ناقۃ جَلْسٌ: مضبوط اونٹ، مضبوط اونٹنی۔ شُھْدٌ جَلْسٌ: گاڑھا شہد۔ الجلس و الجلیس: ہم نشین، ساتھ بیٹھنے والا۔ الجَلْسَۃ: ایک بیٹھک۔ الجِلْسَۃ: بیٹھنے والے کی ہیئت۔ الجُلَسَۃ: بہت بیٹھنے والا۔ المَجْلِس: بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے والے۔ ــــ النیابی: پارلیمنٹ (parliament)۔ مجلس قانون ساز، مقننہ، پارلیمان، مجازاً: نمائندگان، چنانچہ کہتے ہیں: اجتمع مجلسُ النواب: نمائندگان اکٹھے ہوئے۔ مَجْلِسُ الأَعْیَان: ایوان، سینیٹ (senate)۔ مجلس الشوریٰ: مقننہ، شوریٰ، مجلس شوریٰ۔ مجلس شوریٰ الدولۃ: بمعنی مجلسُ الشوریٰ state council۔ مجلس الشُیُوخ: مجلس بزرگان council of elders، سینیٹ senate۔ المجلس البَلَدِیّ (مجلس البَلَدِیَّۃ): لوکل کونسل، میونسپل کونسل، بلدیاتی کونسل، بلدیہ۔ المَجْلِسَۃ: بیٹھنے کی جگہ۔

۲۔ تَجَالَسُوا فی المحاکم: عدالتوں میں بیٹھ کر کرید کرید کر پوچھنا، بحث جاری رکھنا۔ الجَلْسَۃ فی اصطلاح المحاکم: اجلاسِ عدالت کا وقت، جس میں مقدموں کی سماعت کی جاتی ہے اور فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ اجلاس (عدالت)۔ المَجْلِس: کچہری، عدالت۔

○ جَلَسَ ـ جُلُوسًا إلی: کے ساتھ بیٹھنا، میز وغیرہ پر بیٹھنا۔ ــــ علی: (کرسی) پر بیٹھنا۔ جَلَسَ إلی الرسّام: مصور کے سامنے (تصویر بنوانے کے لئے) بیٹھنا۔ جَالَسَ ہ: کے ساتھ، کے برابر یا کی صحبت میں بیٹھنا، کے ساتھ ہونا، کی معیت میں ہونا۔ أَجْلَسَ ہ: کو بیٹھنے کو کہنا، کو بٹھانا۔ جَلْسَۃ جمع جَلَسَات: نشست (جیسے سماعت خانہ میں)، (پارلیمنٹ، کمیٹی، عدالت وغیرہ کا) اجلاس، پارٹی، اجتماع، جلسہ۔ عَقَدَ جَلْسَۃ: اجلاس طلب کرنا، اجلاس کرنا۔ جَلْسَۃ عامَّۃ: اجلاس عام، جلسہ، کال۔ جِلْسَۃ: بیٹھنے کا انداز۔ جَلِیس جمع جُلَسَاء: سماجی اجتماع میں شرکت کرنے والا، دسترخوان کا ساتھی، ہم نشین۔ جَلِیسُہُ: وہ شخص جو پارٹی میں اس کے ساتھ تھا۔ جَلِیسَۃ: خاتون ساتھی، جَلِیس کا مؤنث۔ جُلُوس: بیٹھنا، تخت نشینی۔ جَالِس کی جمع۔ مَجْلِس جمع مَجَالِس: نشست، کمرہ اجلاس، کانفرنس کا کمرہ، پارٹی اجتماع، میٹنگ، سماجی اجتماع، اجلاس، بیٹھک، کونسل کا اجتماع، کونسل، کالج، بورڈ، کمیٹی، ماہرین کی جماعت یا وہ جماعت جسے کوئی خاص کام کرنے کا اختیار دیا گیا ہو یعنی Commission، انتظامی بورڈ، عدالت، خصوصی عدالت۔ فی مَجْلِسِہ: کی موجودگی میں، کی معیت میں۔ مجلس التأدیب اور مجلس تادیبی: انضباطی بورڈ۔ مجلس تاسیسی: آئین ساز یا دستور ساز اسمبلی۔ مجلسٌ آفاقِیٌّ: علاقائی عدالت۔ مجلس الأُمَّۃ: پارلیمان، پارلیمنٹ۔ مجلس الأمن: سلامتی کونسل۔ مجلس الحرب: وار کونسل، جنگی کونسل۔ مجلسٌ حَسْبِیٌّ: وصیت کی تصدیق کرنے والی کونسل (مسلمانوں کے لئے)۔ مجلسٌ مُخْتَلِط: مخلوط عدالت۔ مجلس الدفاع: دفاعی کونسل۔ مجلس الإدارۃ: انتظامی بورڈ، انتظامی کمیٹی، دفتر نظامت، (کارپوریشن یا بنک) کے انتظامیہ کے ارکان یا منتظمین کا بورڈ۔ مجلسُ المُدِیرِیَۃ: صوبائی کونسل، صوبائی پارلیمنٹ۔ مجلس الدَوْلَۃ: انتظامی عدالت عظمیٰ۔ مجلسٌ رُوحِیٌّ: مذہبی عدالت، پاپا شاہی عدالت۔ مجلس الشُیُوخ: سینیٹ، مجلس بزرگان۔ مجلسٌ عدلیٌّ: عدالت، خصوصی عدالت۔ مجلسٌ عُرْفِیٌّ (یا عسکری): فوجی عدالت Courtmartial۔ مجلس عصبۃ الأمم: اقوام متحدہ کی کونسل (Council of the League of Nations)۔ مجلس العموم: ایوان زیریں۔ مجلس الإقتراع: فوجی بھرتی کمیشن recruiting commision۔ مجلس قَرَوِیٌّ: لوکل کونسل۔ مجلسٌ اقتصادیٌّ: اقتصادی کونسل۔ مجلسٌ قومیٌّ: قومی اسمبلی nation assembly۔ مجلسُ قیادۃِ الثورۃ: انقلابی عدالت عظمیٰ۔ المجلس الکبیر اور المجلس الأکبر: مجلس اعلیٰ۔ مجلس اللوردین: دارالامراء۔ مجلسُ النوّاب: ایوان زیریں، ایوانِ نمائندگان۔ مجلس نیابی: پارلیمان، پارلیمنٹ۔ مجلس الجھۃ: صوبائی کونسل۔ مجلس الوزراء: کابینہ cabinet، وزراء کی کونسل۔ مُجَالَسَۃ: سماجی روابط۔ جَالِس جمع جُلُوس و جُلَّاس: بیٹھنے والا، بیٹھا ہوا جمع جُلَّاس: سماجی اجتماع میں شرکت کرنے والے۔

جلط: ۱۔ جَلَطَ ـ جَلْطًا: قسم کھانا، جھوٹ بولنا۔ جَالَطَ ہ: ایک دوسرے سے فریب کرنا۔

۲۔ جَلَطَ ـ جَلْطًا السیفَ: تلوار سونتنا۔ ــــ الجلدَ: کھال اتارنا۔ ــــ الرأسَ: سر مونڈنا۔ اِنْجَلَطَ البعیرُ و الشیءُ: اونٹ کا تیز چلنا، چیز کا پرانا ہونا، گھسنا۔ اِجْتَلَطَ ما فی الإناء: پیالہ میں جو کچھ ہو سب پی جانا۔

۳۔ جَلَطَ ـ جَلْطًا بسَلْحِہ: بیٹ کرنا۔

۴۔ اِجْتَلَطَ ہ: کو اچک لینا۔

۵۔ الجُلْطَۃ: دہی کی تھوڑی مقدار، منجمد خون۔ کہا جاتا ہے: جُلْطَۃ دَمَوِیَّۃ: منجمد خون۔ الجَلُوط من النساء: بے شرم عورت، بے حیا عورت۔

○ جَلَطَ ـ جَلْطًا ہ: (کھال) کو ملنا، سہلانا، رگڑنا، کھرچ دینا، چھیلنا۔ ــــ الرأسَ: سر مونڈنا۔ جُلْطَۃ: ڈلا، ڈلی، منجمد قطرہ، منجمد خون۔

جلع: ۱۔ جَلِعَ ـ جَلَعًا: کے ہونٹوں کے نہ ملنے کی وجہ سے دانتوں کا کھلنا۔ صفت: جَلِع و أَجْلَع مؤنث جَلِعَۃ و جَلْعاء۔ الجَلَعَۃ: ہنسنے کے وقت دانت کھلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لطیفُ الجَلَعَۃ: فلاں شخص نفیس منہ والا ہے۔

۲۔ جَلَعَ ـ جُلُوعًا الرجل ثوبَہ: لباس اتارنا۔ ــــ تِ المرأۃُ قِنَاعَھا عن رأسھا: عورت کا سر سے دوپٹہ اتارنا۔ اِنْجَلَعَ الشیءُ: چیز کا کھل جانا، منکشف ہونا۔ الجالع: دوپٹہ کے بغیر، بے برقع، ننگے منہ، نمایاں۔

۳۔ جَلَعَ ـ جُلُوعًا تِ المرأۃُ: عورت کا بچیا ہونا، فحش باتیں کرنا۔ صفت: جالِع و جالِعَۃ۔ جَالَعَ القومُ: لوگوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، اور اول فول بکنا۔ الجالع و الجَلْعَم: بے حیاء، بے شرم۔

۴۔ اِجْلَعَبَّ و اِجْلَعَدَّ: لیٹنا، بستر پر دراز ہونا۔ الجَلْعَد: سخت، مضبوط۔ الجُلاعِد جمع جَلاعِد من الإبل: سخت مضبوط اونٹ۔

جلغ: جَلَغَ ـ جَلْغًا ہ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا، ٹکڑے کرنا۔ جَالَغَ: تلوار سے مقابلہ کرنا۔

جلف: ۱۔ جَلَفَ ـ جَلْفًا ہ: کو کھرچنا۔ (کہا جاتا ہے: جَلَفَ الطینَ عن الحجرِ: اس نے مٹی کو پتھر سے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کھرچ ڈالا)۔ ـــ الشیء: کوکاٹنا۔ ـــ الظِفرَ: ناخن کوجڑ سے اکھیڑنا۔ ہ بالسیف: تلوار سے گوشت کاٹکڑا کاٹ لینا۔ اِجْتَلَفَ ہ: کوجڑ سے اکھیڑنا، کی بیخ کنی کرنا۔ الجِلف جمع أَجْلاَف و جُلُوف: سرجدا کیا ہوادھڑ۔ ـــ من الغنم: مذبوحہ بکری جس کی کھال اتاری گئی ہواور آنتیں نکال لی گئی ہوں نیز سری اور پائے جدا کر دیئے گئے ہوں۔ برتن، ظرف، روئی کی کور، احمق۔ الجَلِیف مؤنث جَلِیْفَة جمع جَلائف و جُلُف: کھرچا ہوا، قطع کیا ہوا، ٹکڑا کاٹا ہوا، جڑ سے اکھاڑا ہوا۔ الجُلُفَة: چمڑے وغیرہ کی چھیلن یاتراشہ۔ الجِلْفَة جمع جِلَف: خشک روٹی کاٹکڑا۔ ـــ و الجُلْفَة من القلم: قلم کاتراشہ ہواحصہ، زبانِ قلم۔ الجُلاَف: مٹی، کیچڑ۔

۲۔ جَلَفَ ـجَلْفًا ہ الدھرُ: زمانہ کاکسی کومالی طور پر تباہ کر دینا۔ جُلِفَ فی مالِهِ جُلْفَةً: کے مال کی کوئی چیز جاتی رہنا۔ جَلَّفَ الویلُ اموالَھم: ـ سے مالوں کومصیبت کا تباہ کر دینا، نابود کر دینا۔ اِجْتَلَفَ ہُ الدھرُ: زمانہ کاکسی کے مال کونابود کر دینا۔ الجلیف مؤنث: جلیفة جمع جَلاَئِف و جُلُف و جُلُف: کہا جاتا ہے: اصابتھم جلیفةٌ عظیمةٌ: ان کوسخت قحط سالی نے کنگال کر دیا۔ المُجَلَّف: اطراف سے چھانٹا ہوا، چیز کا کچھ حصہ جو باقی ہو۔ الجَلاَئِف: طغیانیاں، کئی سیلاب۔

۳۔ جَلِفَ ـجَلَفًا و جَلاَفَةً: اجڈ ہونا، اکھڑ ہونا۔ الجِلف ج اجلاف و جُلُوف: اجڈ، اکھڑ۔ مؤنث جَلِیفَة جمع جَلاَئف و جُلُف: اجڈ، اکھڑ، ظالم۔

۴۔ تَجَلَّف: دبلا ہونا، کمزور ہونا۔

۵۔ جَلْفَطَ و جَلْفَظَ السفینةَ: کشتی کی درزیں بند کرنا، عوام اسے قَلْفَطَ کہتے ہیں۔ الجِلفاط و الجِلْفاظ: کشتی کی درزیں بند کرنے والا۔

○ جِلْف جمع اَجْلاف: اجڈ، گنوار، غیر مہذب۔

○ جَلْفَطَ جَلْفَطَةً ہ: کشتی کی درزیں بند کرنا۔

○ جَلْفَنَ: طرح دینا (لوہے کی چادر وغیرہ پر جست وغیرہ کاکوٹ کرنا، جست وغیرہ کی قلعی کرنا)۔ جَلْفَنَة: قلعی، ملمع سازی۔ مُجَلْفَن: جست وغیرہ کی قلعی کیا ہوا، طرح دیا ہوا۔

جلق: جَلَقَ ـجَلْقًا الرأس: سرمونڈنا۔ ـــ القومَ بالمنجنیق: دشمنوں پر منجنیق سے پتھر پھینکنا۔ تَجَلَّق: ہنستے ہوئے داڑھیں تک ظاہر کر دینا۔ الجُلاَقَة: گوشت کاٹکڑا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ جُلاَقَة: دبلا پتلا آدمی۔ الجُوَالِق و الجِوَالِق جمع جَوَالِق و جَوَالِیق: اون یابالوں کی گون (فارسی لفظ)۔ جِلِّق و جِلَّق: دمشق یااس کاغوطہ (آس پاس کے مرغزار و سبزہ زار)۔

○ جَلاَقَةٌ قَرَوِیَّةٌ: دہقانی، دیہاتی، گنوار، کندہ، ناتراش، گھامڑ۔

جلك: الجَلْكی و الجَلَکی (ح): بام مچھلی سے ملتی جلتی مچھلی (عجمی لفظ)۔

جلم: ۱۔ جَلَمَ ـجَلْمًا و اِجْتَلَمَ ہ: کوکاٹنا۔ ـــ الصوفَ: اون کترنا۔ الجَلَم و الجَلَمان (تثنیہ کے لفظ سے): اون کترنے کی قینچی۔ آپ الجلمان پر تثنیہ کا اعراب بھی لگا سکتے ہیں اور مفرد کا بھی۔ شریتُ الجَلَمَین او الجَلَمان: میں نے اون کترنے کی قینچی خریدی۔ الجَلَم: ہلال (ح): ایک شکاری پرندہ۔ اسے البزبز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابوریاح ہے۔ ـــ جمع جِلاَم: بکرا، بکری کا بچہ۔ الجُلاَمَة: کتری ہوئی اون۔ الجَیْلَم: چودھویں رات کاچاند۔

۲۔ جَلَمَ ـجَلْمًا و اِجْتَلَمَ الجَزُورَ: ذبح شدہ اونٹ کی ہڈیوں پر سے گوشت اتارنا۔ الجَلْمَة و الجُلْمَة و الجَلَمة: پوری چیز، سب کی سب۔ آپ کہتے ہیں: اخذتُ الشیءَ بجَلْمَتِهِ: میں نے پوری چیز لے لی۔ ھذہ جلمةُ الجَزُور: یہ مذبوح اونٹ کاسارا گوشت ہے۔

۳۔ الجَلْمَد جمع جَلاَمِد و الجُلْمُود جمع جَلاَمِید: پتھر کی چٹان (کہا جاتا ہے: رجلٌ جَلْمَد: سخت مضبوط آدمی۔ ارضٌ جَلْمَدة: پتھریلی، کنکریلی زمین، اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو کنجوس مشہور ہو: رَشَح او بَضَّ جَلْمَدُہ: اس نے کچھ تو دیا)۔ اونٹوں کابڑا گلہ۔

۴۔ جَلْمَقَ القوسَ: کمان پر تانت چڑھانا۔ الجِلْمَاق: وہ پٹھا جس سے تانت بناتے ہیں۔

○ جَلَمَ ـجَلْمًا ہ: کوکترنا، تراشنا، کاٹنا، مونڈنا۔ جَلَم جمع اَجْلاَم: کترنی، قینچی۔ ابو جَلَمْبُو: کیکڑے کی ایک قسم۔ تَجَلْمَدَ: پتھر بن جانا، پتھر میں تبدیل ہو جانا۔ جَلْمَد جمع جَلاَمِد و جُلْمُود جمع جَلاَمِید: چٹان۔

جلن: ۱۔ الجُلَّنار: گل انار۔ (فارسی لفظ)۔

۲۔ الجَلَنْجَبِین: گل قند (فارسی لفظ)۔

جله: ۱۔ جَلَهَ ـجَلْهًا الشیءَ: کوکھولنا، دور کرنا۔ ـــ المرءَ: کوبازرکھنا۔ العمامةَ: پگڑی کو پیشانی سے [illegible] بالوں کا اڑ جانا صفت: اَجْلَہ۔ الجَلْهَة جمع جِلاَہ من الوادی: وادی کاکنارہ، وادی کے سامنے والی جانب۔ بیتٌ مَجْلُوہٌ: مکان جس میں نہ دروازہ ہو نہ کوئی روک اور پردہ۔

۲۔ الجَلاَهِق: مٹی کاغلہ یاسیسے کی گولی (فارسی لفظ)۔

جلا: ۱۔ جَلاَ ـجَلاَءً عن بلدہ و منه: اپنے شہر سے نکلنا۔ ـ الرجلَ عن بلدہ: کواس کے شہر یاملک سے نکالنا، شہر بدر کرنا، ملک بدر کرنا، جلاوطن کرنا۔ أَجْلَی عن بلدہ: اپنے شہر سے نکلنا۔ ـ ہ عن بلدہ: کواس کے شہر یاملک سے نکالنا، کوشہر بدر کرنا، ملک بدر کرنا۔ ـ الرجلُ منزلَهُ: خوف کے باعث اپنے گھر کوچھوڑ دینا۔ اِجْلَوْلَی اِجْلِیْلاَءً الرجلُ: ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر جانا۔ الجَالِیَة جمع جوالٍ: جالی کا مؤنث، غیر ملکی واجنبی لوگ جو اپنے وطن سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں آباد ہو گئے ہوں۔ ذمی لوگ، جزیہ دینے والے۔

۲۔ جَلاَ ـجَلْوًا و جَلاَءً الامرَ: کسی امر کوواضح کرنا، ظاہر وآشکارا کرنا۔ ـ عَنْهُ الھمَّ: کاغم دور کرنا، زائل کرنا۔ ـــ السیفَ: تلوار کوصیقل کرنا۔ جَلاَ جَلاَءً: ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ جَلَّی فلانا و عن فلانٍ الامرَ: کی مصیبت وغیرہ کورفع کرنا۔ ـ عن ضمیرہ: ما فی الضمیر کوظاہر کرنا، دل کی بات کی ترجمانی کرنا۔ جَالَی فلانًا بالأمر: کے سامنے کوئی بات ظاہر کرنا، کھلم کھلا کرنا۔ أَجْلَی القومُ عن القتیل: لوگوں کامقتول کوچھوڑ بھاگنا۔ ـ اللّٰهُ الھمومَ عنه: اللہ تبارک وتعالیٰ کاکسی کے غم دور کرنا۔ تَجَلَّی تَجَلِّیًا الشیءُ: کااچھی طرح ظاہر ہونا۔ تَجَالَی القومُ: ہرایک کاحال دوسرے پر کھل جانا۔ اِنْجَلَی: ظاہر ہونا۔ آپ کہتے ہیں: انجلی الھمُّ عن قلبی: میرے دل سے غم دور ہو گیا۔ اِجْتَلَی العمامةَ: پگڑی کواپنی پیشانی سے اونچا کرنا اٹھانا۔ اِسْتَجْلَی الشیءَ: کوظاہر کرنے کوکہنا۔ الجَلاَ: واضح ہونا۔ ابنُ جَلاَ: واضح امروالا، صبح، چاند۔ الجَلاَء (مص): واضح معاملہ۔ مجازاً کہا جاتا ہے: اقمتُ جلاءَ یومی: میں نے پورے دن قیام کیا۔ الجَلِّی مونث جَلِیّة: واضح، صیقل شدہ۔ جَلِیَّةُ الامرِ: معاملہ کی منکشف شدہ حقیقت، یقینی خبر۔ الأَجْلَی مونث جَلْوَاء: روشن، واضح، ابن أَجْلَی: صبح۔

۳۔ جَلاَ ـجَلْوًا و جَلاَءً النحلَ: شہد نکالنے کے لئے دھواں کر کے شہد کی مکھیوں کو بھگانا۔ اِجْتَلَی النحل: شہد نکالنے کے لئے دھواں کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۴۔ جَلاَ ۔ُجَلْوًا و جَلاءَ البَصَرَ بالکحل: سرمہ سے آنکھ کی بینائی کو روشن کرنا۔ الجَلاَ: سرمہ۔ الجلاء: سرمہ۔

۵۔ جَلاَ ۔ُجَلاءً الشیءُ: بلند ہونا۔ تَجَلَّی تَجَلِّیًا المکانَ: کسی جگہ پر چڑھنا۔۔۔ الشیءَ: کسی چیز کو گردن بلند کرکے دیکھنا۔

۶۔ جَلاَ ۔ُجَلْوَۃً (بتثلیث الجیم) و جَلاءً و اِجْتَلَی العروسَ علی زَوْجِھا: دلہن کا بناؤ سنگھار کرکے خاوند کے سامنے پیش کرنا۔ جَلاَ ۔ُو جَلَّی الزوجُ عروسَہٗ ھدیۃً: شبِ زفاف میں خاوند کا اپنی دلہن کو ہدیہ دینا۔ اِسْتَجْلَتِ العروسُ: دلہن کا آراستہ ہو کر، بناؤ سنگھار کرکے خاوند کے سامنے جانا۔ الجِلْوَۃ: شبِ زفاف شوہر کی طرف سے اپنی دلہن کو دیا ہوا تحفہ۔

۷۔ جَلِیَ ۔َجَلًی: کے سر کے اگلے حصہ کے بالوں کا اُڑ جانا۔ صفت: اَجْلَی مونث جَلْوَاء۔ کہا جاتا ہے: جَبْھَۃٌ جَلْوَاء: چوڑی پیشانی۔ الجَلاَ: سر کے بالوں کے گرنے کی ابتداء۔ المَجْلَی جمع مَجَالٍ: سر کا اگلا حصہ۔ الأجْلَی مونث جَلْوَاء: خوبصورت چہرے والا، وہ شخص جس کے سر کے اگلے حصہ سے بال اڑ گئے ہوں۔ آپ کہتے ہیں: فَعلتُہُ من اَجْلاَكَ: میں نے یہ کام تمہاری وجہ سے کیا۔

۸۔ جَلّی بنظرہ: نظر ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: جَلّی البازی: باز نے سر اونچا کرکے شکار کو دیکھا۔ اِجْتَلَی الشیءَ: کو دیکھنا۔ عینٌ جَلِیَّۃٌ: دیدہ بینا۔ المَجْلُوُّ: جس کی طرف دیکھا جائے۔

۹۔ اجلاتِین (ك): جانوروں کی ہڈیوں اور نسوں سے نکلنے والا ایک چیپ دار مادہ (gelatine)۔

○ جَلاَ ۔ُجَلْوًا ہ: کو صاف کرنا، صیقل کرنا، (منظر) کو واضح کرنا، کو صاف کرنا، ترتیب یا سلیقہ سے لگانا؛ پر روشنی ڈالنا؛ کو دکھانا، ظاہر کرنا، کا انکشاف کرنا، کو بے نقاب کرنا۔۔۔ ہ/ہ عن: کو سے ہٹانا، نکال دینا، بے دخل کرنا۔۔۔ فی: میں چمکنا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا، ذہین، فطین یا طباع ہونا۔۔۔: صاف، ظاہر، بدیہی یا بین ہونا یا ہو جانا، آشکار ہونا۔۔۔ عن: کسی جگہ سے باہر جانا، سے چلے جانا، رخصت ہونا، کو چھوڑ جانا، کو چھوڑ آنا، خالی کر آنا، سے نکل آنا، کو چھوڑ دینا۔ جَلّٰی تَجْلِیَۃً ہ: کو صیقل کرنا، پالش کرنا، کو جلا دینا۔ جَلّٰی ہ یا عن: کا انکشاف کرنا، کو دکھانا، ظاہر کرنا، افشا کرنا منظر عام پر لانا۔۔۔ ہ/ہ: کو دکھانا، کا نمونہ ہونا، کی نمائندگی کرنا، کا نمائندہ ہونا، کا کردار ادا کرنا۔ اَجْلَی ہ/ہ: کو ہٹانا، نکالنا، ہانک لیجانا، بیجانا، نکال دینا، بے دخل کرنا۔۔۔ ہ عن: کو سے نکال لانا۔۔۔ عن: سے نقل مکانی کرنا، سے چلے جانا، کو چھوڑ دینا۔ تَجَلّٰی: واضح ہونا، صاف ہونا، ظاہر ہونا، آشکار ہو جانا، دکھنا، دکھائی دینا، منکشف ہونا، معلوم ہونا، پتہ چلنا، آشکار ہونا، کے آثار ظاہر ہونا، کا اظہار ہونا، اپنا اظہار کرنا، خود کو ظاہر کرنا۔ اِنْجَلٰی: صاف اور واضح ہونا، صیقل ہونا، جلا پانا، ہٹنا، بے دخل ہونا، نکلنا۔۔۔ عن: سے نقل مکانی کرنا، منتقل ہو جانا، کسی جگہ کو خالی کر دینا۔۔۔: (بحران، مشکل وغیرہ) گذر جانا، دور ہونا، زائل ہونا، رفع ہونا، کھو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، آشکار ہونا، بے نقاب ہوا (دلہن کا) بے نقاب ہونا، واضح، ظاہر، صاف یا آشکار ہو جانا، صاف ہو جانا، (بادلوں کا) چھٹ جانا اور کسی چیز کو دکھانا، ظاہر کرنا، کا مرادف ہونا، کا معنی یہ ہونا کہ، پر انجام پذیر ہونا۔ مایَنْجَلِی عنہ الامرُ: معاملہ کا نتیجہ، اس کا نتیجہ۔ اِجْتَلٰی ہ: کو ظاہر کرنا، دکھانا، افشا کرنا، کو منظر عام پر لانا، کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کی طرف دیکھنا۔ اِسْتَجْلٰی ہ: کو واضح کرنے کی کوشش کرنا، کی وضاحت کرنا، کو ترتیب یا سلیقے سے لگانا، پر روشنی ڈالنا، کو فاش کر دینا، کو بڑی جستجو سے معلوم کرکے لوگوں کو پیش کرنا، کو ظاہر کرنا، کو معلوم کرنا، دریافت کرنا، کا پتہ لگانا، کو ظاہر کرنا، کو معلوم کرنا، دریافت کرنا، کا پتہ لگانا، کو دریافت کرنا، کا انکشاف کرنا۔ ابنُ جَلا: مشہور معروف شخص، مشہور شخصیت۔ جَلِیّ: صاف، واضح، ظاہر، بدیہی، بیّن، آشکار، نمایاں۔ جَلِیًّا: ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔ جَلِیَّۃ جمع جَلاَیَا: یقینی چیز، واضح حقیقت۔ جَلِیَّۃُ الأمر: معاملہ کی حقیقی حالت کیفیت۔ اَجْلٰی: واضح تر، زیادہ صاف، زیادہ ظاہر، زیادہ بیّن، صریح۔ جِلْوَۃ: دلہن کی نقاب کشائی۔ لَیْلَۃُ الجِلْوَۃ: شادی کی رات۔ جَلاَء: توضیح، وضاحت، شستگی، صفائی، سادگی، صراحت، رخصت، روانگی، رحلت۔۔۔ عن: سے ہجرت، نقل مکانی، ترک وطن، جلاوطنی، دوسرے ملک میں منتقلی، انخلاء۔ بجَلاَءٍ: واضح طور پر، صریحاً۔ جَلَیَان: تصور، انکشاف، وحی، الہام، بالخصوص وہ جو یوحنا کو جزیرہ پتموس میں ہوا۔ مَجَالٍ (مَجْلًی کی جمع): تجلیات، ظہور، انکشافات۔ تَجَلِّیَۃُ الالٰھیۃ: ربانی کشف۔ تَجَلٍّ: وحی، الہام، انکشاف، اظہار، مظاہرہ، صاف اظہار، واضح بات، حضرت مسیح کی معجزانہ تبدیل ہیئت۔ عیدُ التَّجَلِّی: حضرت مسیح کی معجزانہ تبدیلی ہیئت کا تہوار۔ اجتلاء: غور و فکر، بصیرت، تصور، استغراق [illegible] وضاحت، توضیح۔ جَالِیَۃ جمع جالیات و جَوَالٍ: غیر ملکیوں کا علاقہ، آبادی، تارکین وطن کی آبادی۔ المُجَلِّی: (دوڑ میں) جیتنے والا۔ مُتَجَلٍّ: واضح، بیّن، ظاہر، بدیہی، صاف، آشکار۔

○ جَلُون جمع جلونات: گیلن (gallon)۔

○ مُجَلُّون: طرح دیا ہوا، جس پر جست وغیرہ کی قلعی کی گئی ہو، ملمع شدہ۔

○ جِلْیُوتِین: آدمیوں کے سر قلم کرنے کی مشین guillotine۔

○ ج م: جنیہ مصری (مصری پونڈ) کا مخفف۔

جلی: ۱۔ جَلَی ۔ِجَلْیًا السیفَ: تلوار کو صیقل کرنا۔ جَلَّی الامرَ: کسی امر کو ظاہر کرنا۔ الجِلْی: چھت کا روشن دان۔ الجِلِّیَان: کشف و اظہار۔ الجِلِّیَان یوحنا کے خواب سے متعلق تورات کا ایک جز۔

۲۔ جَلَّی الفرسُ: گھوڑے کا میدان میں آگے نکل جانا۔ المُجَلِّی: میدان میں آگے رہنے والا۔

جمّ: ۱۔ جَمَّ ۔ِجَمًّا و جُمُومًا الشیءُ: چیز کا بہت ہونا، بکثرت ہونا۔۔۔ جُمُومًا العظمُ: ہڈی کا بہت پر گوشت ہونا۔ جَمَّمَ و تَجَمَّمَ النبتُ: روئیدگی کا بکثرت بڑھ کر زمین کو ڈھک لینا۔ صفت جَمِیم جمع اَجِمّاء۔ اِسْتَجَمَّت الارضُ: زمین کا نباتات اگانا۔ الجَمُّ (مص): بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے: جَاؤُوا جَمًّا غفیراً و جَمَّ الغفیرِ و جَمَّ الغفیرۃ و الجمَّ الغفیرَ: شریف و رذیل سب ہی آئے اور بڑی تعداد میں آئے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ الجَمَم: کثرت، بڑی تعداد۔ الجُمَّۃ: سر کے بالوں کی کثرت۔ جمع جُمَم ۔۔۔ و الجَمَّۃ: چیز کا بیشتر اور بہت سا حصہ۔ کہا جاتا ہے: جَاؤُوا فی جَمَّۃٍ کثیرۃ: وہ بڑی تعداد میں آئے۔ الجَمّاء: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: اِمرأۃٌ جَمّاءُ العظام: بہت موٹی عورت، پُر گوشت عورت۔ کہتے ہیں: جَاؤُوا جَمّاءَ الغفیر و جَمّاءَ الغفیرۃِ و الجَمّاءَ الغفیرۃَ و جَمّاءَ غفیرۃً و بجَمّاءِ الغفیر الخ: وہ سب کے سب آئے۔ الجَمِیم: بہت روئیدگی، جو پورا طویل نہ ہوا ہو۔ الجُمّانِیّ و المُجَمَّم: وہ شخص جس کے سر پر بہت بال ہوں۔

۲۔ جَمَّ ۔ُجُمُومًا الماءُ: پانی کا بڑی مقدار میں جمع ہونا۔۔۔ ت البئرُ: کنویں کا زیادہ پانی والا ہونا۔ صفت جَمُوم۔۔۔ جَمًّا و جِمَامًا و جُمَامًا و جَمَامًا الماءَ: پانی کو جمع ہونے دینا۔ اَجَمَّ الماءَ: پانی کو جمع ہونے دینا۔ اِسْتَجَمَّ الماءُ: بڑی مقدار میں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پانی کا جمع ہونا۔ــــ البئرَ: کنویں کو پانی سے بھر جانے دینا۔ الجَمّ جمع جِمَام و جُمُوم من الماء: پانی کا بڑا حصہ۔ الجَمَّة جمع جِمَام: بہت پانی والا کنواں۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: اِستَقِ من جمة البئر: زیادہ پانی والے کنویں سے پانی پی لو۔ المَجَمّ و الجَمَم: سینہ۔ کہا جاتا ہے: هو رحب الجَمَم: وہ فراخ سینہ وفراخ دل ہے۔

۳۔ جَمَّ ـُـ جَمًّا و جمامًا و جُمَامًا و جَمَامًا الكيلَ: پیمانہ کو چوٹی تک بھرنا۔ــ المكيالَ: پیمانہ کو چوٹی تک بھرنا۔ جَمَّمَ المِكْيَالَ: پیمانہ کو چوٹی تک بھرنا۔ الجَمَام (بتثليث الميم) و الجَمَم: پیمانہ کے لبوں سے اوپر کا ماپ۔ کہا جاتا ہے: جمامُ القدحِ ماءً: پانی سے بھرا پیالہ۔ الجَمَّام و الجَمَّان: لبالب بھرا ہوا پیمانہ۔

۴۔ جَمَّ ـُـ جَمًّا و جَمَامًا الفرسُ: گھوڑے کا کوتل چھوڑا ہونا۔ــــ ـُـ جُمُومًا القومُ: لوگوں کا آرام کرنا۔ اَجَمَّ الفرسَ: گھوڑے کو کوتل چھوڑ دینا، اس پر سواری نہ کرنا۔ــــ الفؤادَ: دل کو آرام کرنے دینا۔ کہا جاتا ہے: اَجْمِمْ نفسك يوما او يومين: ایک دو دن جان کو آرام دو اور چلو پھرو نہیں۔ــــ و اُجِمَّ الفرسُ: گھوڑے کا کوتل چھوڑا جانا۔ اِسْتَجَمَّ اِستِجمَامًا: آرام کرنا۔ کہا جاتا ہے: انی لا ستجمّ قلبی بشیء من اللهو: میں اپنے دل کو کھیل کود سے بہلاؤں گا۔

۵۔ جَمَّ ـُـ جُمُومًا الفراقُ: فراق وجدائی کا قریب آنا۔ اَجَمَّ الفراقُ: جدائی کا وقت قریب آنا۔ــ الامرُ: حاضر ہونا یا قریب آنا۔

۶۔ جَمَّ ـَـ جَمَمًا الكبشُ: مینڈھے کا بے سینگ ہونا۔ الأَجَمّ مونث جَمَّاء جمع جُمّ: بے سینگ والا مینڈھا، بغیر نیزہ کے لڑنے والا۔ الحصن الأَجَمّ: بلندی نہ رکھنے والا قلعہ۔ ارضٌ جَمَّاء: ہموار زمین۔

۷۔ جَمْجَمَ جَمْجَمَةً و تَجَمْجَمَ الكلامَ: بات کو صاف نہ کہنا۔ کہا جاتا ہے: تَجَمْجَمَ عن الأمر: اس نے کام کا بیڑہ نہ اٹھایا۔ جَمْجَمَ شيئًا في صدره: اس نے بات کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا اور اس کا پتہ نہ لگنے دیا۔ الجُمْجُمَة جمع جَماجِم (ع ا): کھوپڑی، لکڑی کا پیالہ، زمین شور میں کھدا ہوا کنواں۔

○ جَمَّ ـُـ جَمًّا: حواس بجا کرنا، اپنے خیالات مجتمع کرنا، ہمہ تن متوجہ ہونا، آرام کرنا۔ جَمَّمَ و تَجَمَّمَ: پودوں کا بکثرت اگنا، بڑھنا۔ اِسْتَجَمَّ: حواس بجا کرنا، اپنے خیالات مجتمع کرنا، ہمہ تن متوجہ ہونا، آرام کرنا۔ــ من: ــــ سے تفریح چاہنا۔ــ: زمین کا فراوان روئیدگی سے ڈھکا ہوا ہونا۔ جَمّ: کثیر، بہت، وافر، زیادہ، فراواں، کثیر، بہت، بڑی حد تک، کافی مقدار، بہت کچھ، بہت سا، کئی، بہت سے، بےشمار، بہتیرے، متعدد، بڑی تعداد میں، افراط، گونا گوں، بوقلموں، طرح طرح کا، انواع و اقسام کے، مختلف اصناف کے، جمگھٹا، بھیڑ، جم غفیر، ہجوم، انبوہ، کثرت، اژدہام، عوام الناس، خلقت، لوگوں کا گروہ، لوگوں کی جماعت۔ جمّ الاثر: موثر، کاری، مجرب، تیر بہدف، کارگر، یقینی اثر کرنے والا۔ احبه حُبًّا جَمًّا: ــــ سے ضرورت سے زیادہ محبت کرنے والا ہونا۔ فَوَائِدُ جَمَّةٌ: متعدد منفعتیں، وسیع فوائد۔ جم غفیر: بڑا ہجوم، بڑا انبوہ، بڑا اژدہام، بڑا جمگھٹا، مجمع، بھیڑ۔ جَمَّام: آرام، تفریح، بہلاوا، نئی طاقت کا اجتماع۔ مَجَمّ: وہ جگہ جہاں کوئی چیز جمع ہو یا باہم ہے۔ مَجَمّ هذا الرأي و مُسْتَجَمُّهُ: یہ رائے جس وزن کی ہے۔ اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ۔ تجميم: خواتین کے ترشے ہوئے بال۔ اِسْتِجْمَام: خیالات کا مجتمع ہونا، پوری توجہ، ارتکاز، دھیان، التفات، متوجہ، تعظیم، آرام، تفریح۔

○ جُمْبُرِی و جَمْرِی: ایک قسم کا جھینگا۔

○ جَمْجَمَ جَمْجَمَةً الكلامَ و تَجَمْجَمَ: ٹھہر ٹھہر کر صاف نہ بولنا، ہکلا کر کہنا، رک رک کر کہنا، خراب طریقے سے اظہار مافی الضمیر کرنا، بے ربط گفتگو کرنا، منہ ہی منہ میں کچھ کہنا۔ جُمْجُمَة جمع جَمَاجِم: کھوپڑی، کاسہ سر۔ جُمْجُمِيّ: کھوپڑی کا (یا کھوپڑی سے متعلق)۔

جمی: جَمِيَ ـَـ جَمًا عليه: پر غصہ ہونا۔ تَجَمَّى في ثيابه: اپنے کپڑوں میں لپٹنا۔ــــ القومُ: قوم کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الجَما و الجَمَاء: شخص۔

جمح: جَمَحَ ـَـ جَمْحًا و جِمَاحًا و جُمُوحًا الفرسُ: گھوڑے کا منہ زوری کرنا، سوار کے قابو سے باہر نکلنا۔ صفت: جَامِح (مذکر و مونث دونوں کے لئے) جمع جَوَامِح: اس سے ہے: جَمَحَتِ المرأةُ زوجها: عورت کا اپنے خاوند کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ وغیرہ کے گھر چلے جانا، خودسر ہونا۔ جمح الرجلُ: آدمی کا خودسر ہونا، خودرائے ہونا۔ صفت: جَمُوح۔ کہا جاتا ہے: جمحت المفازةُ بالقوم: بیابان نے قوم کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا۔ [illegible]

الجُمَّاح جمع جَمَامِح و جَمَامِيح: لڑائی میں شکست کھا کر بھاگ جانے والے بے پھل والا تیزہ۔

○ جَمَحَ ـَـ جَمْحًا و جِمَاحًا و جُمُوحًا: (گھوڑے کا) بھاگ نکلنا، فرار ہو جانا، سرکش ہونا، آسانی سے قابو میں نہ آنا، اودھم مچانا، نافرمان ہونا، گستاخ ہونا، متلون مزاج ہونا، من موجیا ہونا، لہری ہونا، موجی ہونا، خبطی ہونا، (عورت کا) اپنے خاوند کو چھوڑ کر چلے جانا، گھر سے بھاگ جانا۔ جِمَاح: سرکشی، نافرمانی، حکم عدولی، خودسری، خودرائی، ضد۔ جُمُوح: بمعنی جماح۔ جَمُوح: خودسر، سرکش، گستاخ، نافرمان، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا، قابو میں نہ رہنے والا۔ جَامِح: خودسر، سرکش، گستاخ، نافرمان، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا، نہ دبنے والا، ڈٹ جانے والا، جو سدھانے کے قابل نہ ہو۔

جمخ: جَمَخَ ـَـ جَمْخًا: تکبر کرنا صفت: جَامِخ جمع جُمَّخ و جُمُوخ و جَوَمِيخ۔ جَامَخَهُ: ــ سے مقابلہ پر فخر کرنا۔

جمد: ۱۔ جَمَدَ ـُـ جَمْدًا و جُمُودًا الماءُ: پانی کا جم جانا۔ــ الدمُ: خون کا خشک ہو جانا۔ جَمَّدَ تَجْمِيدًا الاموالَ المنقولةَ (ت): سرمایہ منجمد کرنا، رقم نکلوانے سے روک دینے کا حکم دینا۔ جَمَّدَ و اَجْمَدَهُ: کو جمانا۔ الجَمَدَ و الجَمْد: جما ہوا پانی، برف۔ــــ و الجُمُد و الجُمْد: سخت و بلند زمین۔ الجَمَاد جمع جُمُد: زمین۔ــــ جمع جَمَادات و الجامِد جمع جَوَامِد: نہ چلنے پھولنے والی اور غیر جاندار شئے، جیسے پتھر۔ الفعل الجامد: غیر متصرف فعل جس کی گردان نہیں ہوتی: جیسے لَيسَ و عَسَى۔

۲۔ جَمَدَ ـُـ عينُه: کی آنکھ کے آنسوؤں کا بند ہونا۔ صفت: جَمَادُ و جَمُودُ و جميدُ العين موثث جَمُود جُمَادَى: وہ (آنکھ) جو آنسو نہ ٹپکائے۔ کہا جاتا ہے: عينٌ جُمَادَى: آنسو نہ ٹپکانے والی آنکھ۔ الجَمَاد جمع جُمُد: کہا جاتا ہے: الناقةُ الجَمَاد: سست رفتار اونٹنی، اونٹنی جو دودھ نہ دے۔ سَنَةٌ جَمَاد: وہ سال جس میں بارش نہ ہو۔ ارضٌ جَمَاد: زمین جس پر بارش نہ برسی ہو۔

۳۔ جَمَدَ ـُـ جُمُودًا و جَمْدًا ـُ يدُه: کنجوس ہونا۔ اَجْمَد: کنجوس اور بے خیر ہونا، بے بھلائی ہونا۔ الجَمَاد جمع جُمُد: کہا جاتا ہے: فلانٌ جماد الكف: فلاں شخص کنجوس ہے۔ جَمَادِ له (کسرہ پر مبنی): بخیل کے حق میں بددعاء کہ خدا کرے وہ ہمیشہ اسی حال میں رہے۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۴۔ جَمَدَ ـُـ جُمُوْدًا و جَمْدًا حقُّه علی فلان: کا حق کسی پر واجب ہونا۔ اَجْمَدَ حَقَّهٗ علیه: پر اپنا حق واجب ٹھہرانا، اپنے حق کو کسی کی مرضی کے خلاف قبول کروانا۔

۵۔ أَجْمَدَ ماہ جمادی میں داخل ہونا۔ جُمَادَی جمع جُمَادَیات الاولی و الآخرۃ: قمری سال کا پانچواں اور چھٹا مہینہ۔

۶۔ جَامَدَ مُجَامَدَۃً: کا پڑوسی ہونا، پاس پاس ہونا، قریب قریب ہونا، کہا جاتا ہے: هو مُجَامِدِی: وہ میرا پڑوسی ہے، گھر سے گھر ملا ہوا ہے۔

○ جَمَدَ ـُـ جَمُدَ ـُـ جَمْدًا و جُمُودًا: جمنا، سخت ہونا، منجمد ہونا، اکڑ جانا، اکڑا ہونا، ٹھوس ہونا یا ہو جانا، مضبوط ہونا، (خون کا) جمنا، منجمد ہونا، بستہ ہونا، گاڑھا ہونا، (اپنی سوچ میں) بے لوچ ہونا، بلا رو رعایت ہونا، غیر اثر پذیر یا غیر تغیر پذیر ہونا، کسی بہتی چیز کا رک جانا، کھڑا ہونا، بے حس ہونا، بے پروا ہونا، مردہ ہونا، کاہل ہونا، ڈھیلا ہونا، کند ہونا، دلچسپی نہ لینا۔ جمدت نفسُه علی: کے حق میں نہ حامی نہ مخالف ہونا، نہ ادھر نہ ادھر ہونا، کو برداشت کرنا، چپ چاپ مان لینا، پر رضامند ہونا، متفق ہونا۔ جمدت یدُه: کنجوس ہونا، بخیل ہونا، کمینہ ہونا۔ جَمَّدَ ہ: کو جمانا، منجمد کرنا، برف کر لینا، ٹھوس بنانا، سخت کرنا، (دہی) جمانا، (خون) منجمد کرنا، (سرمایہ) منجمد کرنا۔ تَجَمَّدَ: جمنا، منجمد ہونا، برف بن جانا، برف سے بھر جانا، رک جانا یا سخت ہو جانا، یخ بستہ ہو جانا، منجمد ہو کر مر جانا، ٹھوس ہونا، سخت ہونا، (سیمنٹ کا) سخت ہو جانا، سیٹ ہو جانا، (خون کا) جمنا، خشک ہونا۔ اِنْجَمَدَ: برف سے بھر جانا، رک جانا یا سخت ہو جانا، یخ بستہ ہو جانا، برف بن جانا، جمنا، منجمد ہونا۔ جَمْد: جمنا، منجمد ہونا، ٹھوس ہونا، جماد، انجماد۔ دَرَجَۃُ الجَمْد: درجہ انجماد، نقطہ انجماد۔ جَمَد: برف۔ جَمَاد جمع جَمَادات: ٹھوس شئے، بے جان غیر نامیاتی جسم، معدنی چیز، معدنیات، بے جان، مردہ جسم، بے جان وجود یا ہستی۔ جُمُود: جمی ہوئی حالت، ٹھوس اور مضبوط حالت، گاڑھا پن، گھنا پن، سنگینی، مضبوطی، استواری، سختی، درشتی، کڑا پن، کرختگی، درشتی، ٹھوس مادی حالت، بے حسی، بے لوچ ہونا، غیر اثر پذیری، تعطل، رک جانا، ٹھہراؤ، سستی، کاہلی، (مادے کا) جمود، بے عملی، بے ہمتی، کم ہمتی، کٹھور پن جمود، خاموشی سے برداشت، بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی۔ جُمُودَۃ: ٹھوس پن، سختی۔ تجمید: جمانا، ٹھوس بنانا، جماد، انجماد، استحکام، پیوستگی، الحاق، بنیاد کو مضبوط بنانا۔ تجمید الاموال: سرمایہ کو منجمد کر دینا۔ جَامِد: سخت، ٹھوس، بے لوچ، بے حرکت، ساکن، بے حس و حرکت، بے جان، غیر نامی، غیر نامیاتی، خشک، بے لطف (کتاب وغیرہ)، ترقی یا نئے خیال یا چیز سے غیر اثر پذیر، جمود کا شکار، جس پر جمود طاری ہو، احساس سے عاری، غیر معمولی حد تک قدامت پسند، یا اعتدال پسند یا انقلاب کا مخالف جمع جَوَامِد: بے جان چیزیں، غیر نامیاتی مادہ، معدنیات۔ مُتَجَمِّد: جما ہوا، برف، سخت سرد، برفانی، سخت، منجمد۔ مُنْجَمِد: جما ہوا، برفانی، سخت سرد، برفیلا، قطب شمالی کا یا اس کے متعلق یا اس کے قریب واقع۔ المُحِیطُ المُنْجَمِد: بحر منجمد شمالی۔

جمر: ۱۔ جَمَرَ ـِـ جَمْرًا القومُ علی امرٍ: قوم کو کسی معاملہ پر اکٹھا کرنا۔ — و استجمر القومُ علی امرٍ: قوم کا کسی معاملہ پر جمع ہونا اور مل بیٹھنا۔ جَمَّرَ القومُ علی امرٍ: قوم کا کسی معاملہ پر اکٹھا ہونا۔ — الامرُ القومَ: کسی معاملہ کا قوم کو مل بیٹھنے کے لئے ضروری بنانا۔ — ت المرأۃُ شعرَها: عورت کا چوٹی گوندھ کر پیچھے ڈالنا۔ اجمر القومُ علی امرٍ: قوم کا کسی معاملہ پر اکٹھا ہونا۔ — الامرُ القومَ: کسی معاملہ کا لوگوں کو ہم آغوش کرنا۔ — ت المرأۃُ: عورت کا چوٹی گوندھ کر پیچھے ڈالنا۔ تَجَمَّرَ الجیشُ: فوج کا دشمن کی سرزمین میں گھر جانا اور لوٹ نہ سکنا۔ — ت القبائلُ: قبیلوں کا اکٹھا ہونا۔ الجَمْرَۃ جمع جَمَرات و جِمَار: آپس میں مل کر ایک جان ہونے والے لوگ۔ کہا جاتا ہے: بنو فلانٍ جَمْرَۃ: فلاں شخص کی اولاد اتفاق و اتحاد کے رشتہ میں جکڑی ہوئی ہے۔ الجَمَّار: جماعت، اکٹھے لوگ۔ جَمَّارَی و جَمَارَی (تنوین کے ساتھ اور اس کے بغیر): سب کے سب، کل کہا جاتا ہے: جاءَ القوم جَمَّاری: سب کے سب لوگ آئے۔ جُمَار: کہا جاتا ہے: جاءَ القومُ جُمَارًا: وہ لوگ سب کے سب آئے۔ الجَمِیر: قوم کے اکٹھا ہونے کی جگہ۔ جَمِیرُ الشَّعَر: بالوں کی گندھی ہوئی چوٹی۔ ابنُ جمیرٍ: تیرہ و تاریک رات۔ ابنا جمیر: رات اور دن۔ الجُمَیْرَۃ: سر کے بالوں کی چوٹی، مینڈھی۔

۲۔ جَمَرَ ـِـ جَمْرًا ہ: کو چنگاری دینا۔ جَمَّرَ اللحمَ: گوشت کو انگارے پر رکھنا۔ أَجْمَرَ النارَ: آگ تیار کرنا۔ — الثوبَ: کپڑے کو دھونی دینا۔ تَجَمَّرَ بالمِجْمَرَۃ: انگیٹھی سے دھونی لینا۔ اِجْتَمَرَ و اِسْتَجْمَرَ بالمِجْمَرَۃ: انگیٹھی سے دھونی لینا۔ الجَمْرَۃ جمع جَمَرات و جِمار (جَمْر کا واحد)، انگارہ۔ المِجْمَرَۃ و المِجْمَر جمع مَجَامِر: انگیٹھی۔

۳۔ جَمَّرَ النخلۃَ: کھجور کے درخت کی چربی کی مانند گوند کاٹنا۔ الجُمَّار و الجَامُور: واحد جُمَّارۃ و جامُورۃ جمع جُمَّارات و جامورات: کھجور کے درخت کا گوند جو چربی کے مشابہ ہوتا ہے۔

۴۔ أَجْمَرَ: تیز چلنا۔ اسی سے ہے: اَجْمَرَ بین یدیه: وہ اسکے ساتھ تیز چلا۔

۵۔ الجَمْرَۃ جمع جَمَرات و جِمار: کنکری۔ جِمارُ الحج: منی کے تین مناسک میں حجاج کی طرف سے پھینکی جانے والی کنکریاں۔ المُجْمِر و المُجْمَر من الحوافر: سخت کھر۔

۶۔ الجُمْرُك و الكُمرك جمع جَمَارِك او كَمارِك: دفتر محصول درآمدگی، (فارسی لفظ)۔

○ جَمَّرَ ہ: (گوشت) بھوننا۔ اِجْتَمَرَ: دھونی دینا، بخورات جلانا۔ جَمْر: انگارے، دہکتا ہوا کوئلہ۔ کان علی اَحَرَّ من الجَمْر: خلجان میں ہونا، مخمصے میں ہونا، زبردست تشویش، امید و بیم کی حالت میں ہونا، تجسس میں مرے جانا۔ جَمْرَۃ (جمر کا واحد) دہکتا کوئلہ، جلتی ہوئی لکڑی، سلگتی چنگاری، کھٹکتی آزردگی۔ جمع جمرات: دنبل۔ الجَمْرَۃُ الخبیثۃ: بھڑ تپ anthrax۔ جُمَّار: نخل کا گودا، مغز۔ مَجْمَرَۃ جمع مَجَامِر: انگارہ دان، عود سوز، عود دان، اگر دان۔

○ جُمْرُك جمع جَمَارِك: محصول درآمد (و برآمد)، دفتر یا محکمہ محصول درآمد (و برآمد)۔ رسمُ الجمرك: بحری لگان، محصول درآمد، تامینی محصول۔ جُمْرُکی: محصول درآمد کا یا اس کے متعلق۔ اِتِّحادُ جُمْرُکیٌّ: اتحاد محصول درآمد۔ مُجَمْرَك: محصول دادہ۔

جمز: ۱۔ جَمَزَ ـِـ جَمْزًا ہ: سے تمسخر اور ٹھٹھا کرنا۔

۲۔ جَمَزَ ـِـ جَمْزًا: تیز دوڑنا۔ صفت۔ جَمَّاز۔ الجَمَزَی: دلکی، تیز چال۔ کہا جاتا ہے: یعدو الجَمَزَی: وہ تیز دوڑتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: رجع القَهْقَری: وہ پیچھے مڑا یا لوٹا۔ حمارٌ جَمَزَی: دلکی چلنے والا گدھا۔

۳۔ الجُمْزَۃ جمع جُمَز (ن): پھلی جس میں دانا ہوتا ہے۔ الجُمَّیز و الجُمَّیزَی: واحد جُمَّیزَۃ (ن): گولر کا درخت۔

○ جُمَّیز واحد جُمَّیزۃ مصر اور شام کا انجیر کا درخت۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جمس: ا۔ جَمُسَ ـُ و جَمَسَ ـُ جُمُوسًا السمنُ: گھی کا جم جانا۔ الجَامِس (فا) مِنَ النبات: مرجھائی ہوئی گھاس۔ جَمِیس: خشک۔ دمٌ جَمِیس: خشک خون۔
۲۔ الجَمَسْت: ایک قسم کا قیمتی پتھر (فارسی لفظ)۔
۳۔ الجامُوس جمع جَوَامِیس (ح): بھینس (فارسی لفظ)۔

جمش: ا۔ جَمَشَ ـِ جَمْشًا الرأسَ: سرمونڈنا اسی سے ہے: مکانٌ جَمِیش: روئیدگی سے خالی جگہ۔ الجَمُوش و الجَمِیش: بال گرنے کی مرکب دوا۔
۲۔ جَمَشَ ـِ جَمْشًا الناقةَ: انگلیوں کے پوروں سے اونٹنی کو دوہنا۔ جَمَّشَ ہ: کی چٹکی لینا، سے کھیل کھیلنا۔ الجَمْش: آہستہ آواز۔
○ جَمَشَ ـُ جَمْشًا ہ: کے بال اڑانا۔ جَمَّش: پیار کرنا، پیار سے ہاتھ پھیرنا، چومنا، بہت لاڈ، پیار کرنا۔

جمع: جَمَعَ ـَ جَمْعًا المُتَفَرِّقَ: منتشر اشیاء کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ کہا جاتا ہے: جُمِعَتِ الجُمُعَةُ: جمعہ کی نماز کھڑی کی گئی۔ جَمَّعَ: جمع کرنا، اکٹھا کرنا (تشدید مبالغہ کے لئے ہے)۔۔ المسلمُ: مسلمان کا جمعہ کی نماز میں شریک ہونا۔ جَامَعَ مُجَامَعَةً و جِمَاعًا ہ علی کذا: کی کسی بات پر اتفاق کرنا، موافقت کرنا۔ ــــ ھا: عورت سے ہمبستری کرنا۔ أَجْمَعَ القوم علی کذا: قوم کا کسی بات پر اتفاق کرنا۔۔ الامرَ و علی الأمر: کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا۔ــــ ما کان مُتَفَرِّقًا: متفرق اور بکھری چیز کو یکجا کرنا۔ الابلَ: اونٹوں کو اکٹھے ہانکنا۔ تُجَمَّعَ القومُ: قوم کا یکجا ہونا، اکٹھا ہونا۔ــــ الشیءُ المُتَفَرِّقُ: متفرق اور بکھری چیز کا اکٹھا ہونا، یکجا ہونا۔ اجْتَمَعَ القومُ و الشیءُ المتفرقُ: قوم اور بکھری ہوئی چیز کا یکجا اور اکٹھی ہونا۔۔ الغلامُ: لڑکے کا جوان اور قوی ہونا، طاقت ور ہونا (عورتوں کے لئے اجتمع کا لفظ مستعمل نہیں)۔ اِنْجَمَعَ الشیءُ: چیز کے اجزاء یا افراد کا یکجا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ اِسْتَجْمَعَ القومُ: پوری قوم کا چلا جانا۔ ـ لہُ الامرُ: کام کا کسی منشا کے مطابق تکمیل پانا۔ــ البقلُ: سب سبزی ترکاری کا خشک ہوجانا۔۔ الفرسُ جَرْیًا: گھوڑے کا پوری طاقت سے دوڑنا۔ الجَمْعُ (مص) جمع جُمُوع: لوگوں کی جماعت۔ یومُ الجمع: قیامت کا دن۔ جُمْع جمع أَجْمَاع: مٹھی بھر چیز ــــ الکف: مٹھی۔ کہا جاتا ہے: ضربتهُ بِجُمْعِ کفّی: میں نے اسے مکے سے مارا۔ الجَامِع (فا) جمع جَوَامِع: جامع مسجد۔ الکلامُ الجامِع: وہ کلام جس کے الفاظ کم مگر مطلب بہت ہوں۔ الیومُ الجامِع: جمعہ کا دن۔ قِدْرٌ جامِعٌ: دیگ۔ ابو جَامِع: دسترخوان کی کنیت۔ الجَامِعَة، جامع کی مؤنث: تعلق، طوق، یونیورسٹی، تورات کی ایک کتاب۔ قِدرٌ جامِعَةٌ: دیگ۔ الجماع (مص): جِماعُ الشیء: کسی چیز کی جمع۔ کہا جاتا ہے: جِماعُ الخباء الأخْبِیَة: خبا کی جمع اَخبیۃ ہے۔ الخمرُ جماعُ الإثم: شراب ہر قسم کے گناہوں کو اپنے اندر جمع رکھتی ہے۔ قِدر جِماعٌ: دیگ۔ الجُمْعَة: اجتماع، دوستی، ہفتہ۔ جُمْعَةٌ مِن تَمرٍ: مٹھی بھر کھجور۔۔ والجُمُعة جمع جُمَع و جُمَاعات: ہفتہ کا چھٹا دن۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نام اس لئے پڑا کہ مسلمانوں کے مسجد میں اکٹھے ہونے کا دن ہے۔ أَجْمَعَ مونث جَمْعاء جمع أَجْمَعُون: یہ تاکید کا ایک لفظ ہے اور ہر اس شے کی تاکید کے لئے آتا ہے جس کا افتراق حسًّا اور حکمًا صحیح ہو۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا أَجْمَعَهُمْ و بِأَجْمَعِهِم و بِأَجْمُعِهِم: وہ سب کے سب آگئے۔ الجَمِیع: لوگوں کی جماعت، تاکید کے موقعہ پر بمعنی سب کے سب (کہا جاتا ہے: جاؤوا جمیعُهم: وہ سب کے سب آگئے۔ رایٌ جمیعٌ: ٹھیک اور پختہ رائے) لشکر۔ المُجْمِع من الأُمُور: متفق فیہ امر، وہ معاملہ جس پر سب آراء متفق ہوں۔ المُجْمَع من الأُمور: قطعی معاملہ۔ المَجْمَعُ جمع مَجَامِع: جمع ہونے یا اجتماع کی جگہ۔ (کہا جاتا ہے: اخذت محبتُهُ بمجامع قلبی: اس کی محبت میرے دل کے ریشہ ریشہ میں پیوست ہوگئی) کلیسائی مجلس۔۔ العِلْمِیّ: اکاڈمی۔ مُجَامَعَة: ہفتہ بھر کے لئے۔ کہتے ہیں: استاجر الاجیرَ مجامعةً: اس نے مزدور کو ہفتہ وار ادائیگی پر رکھا۔ جس طرح مُشَاهَرَةً: ماہانہ ادائیگی پر کے معنی میں آتا ہے۔ ارضٌ مَجْمَعَةٌ و مُجْمِعَةٌ و مُجَمِّعَةٌ: وہ زمین جس میں لوگ اکٹھے ہوجائیں اور بھٹکنے کے خوف سے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ المَجْمُوع (مفع) جمع مَجَامِیع: وہ کتاب جس میں مختلف چیزیں جمع کی گئی ہوں جیسے اشعار و قصے وغیرہ، نحویوں کے نزدیک اس کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے۔ الجَمِیعة جمع جَمَائِع: اجتماع۔ الجَمَاعَة جمع جَمَاعات: لوگوں کا گروہ، اس لفظ کا اطلاق حیوانات پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: جماعة النحل: شہد کی مکھیوں کی ٹولی۔ الإجماع: اسلامی عقیدہ پر مبنی چار اصولوں میں سے ایک اصول، ہر زمانہ میں اور جزوی معاملہ پر امت [illegible] کا اتفاق رائے۔ المُجْتَمَعة: کہا جاتا ہے: رجلٌ مُجْتَمِعٌ: جوان۔ مشی مُجْتَمِعًا: وہ بدن کو سنبھالے ہوئے پوری طاقت سے تیز تیز چلا۔ المُجْتَمَع: جائے اجتماع، مجازًا: سماج، معاشرہ، سوسائٹی، جیسے المجتمع القومی: قومی سماج۔ المجتمع الانسانی: انسانی معاشرہ۔ الجَمَاعِیَّة: اجتماعیت collectivism۔ الجَمَاعَات و الجماعات (ع ح): ٹیکسوں اور معاملات وغیرہ کے رجسٹر۔ الهیئة الإجْتِمَاعِیَّة: اشتراکیت (socialism)

○ جَمَعَ ـَ جَمْعًا ہ: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، (روپیہ محصول) اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ــــ: اجزاء کو کل میں متحد کرنا، یکجا کرنا، ملانا۔ــــ ہ: کو جوڑنا، (ٹائپ) کے حروف کو جمانا، (کتاب) مرتب کرنا، تالیف کرنا، مدون کرنا، ترتیب دینا، (کسی چیز کی) تلخیص کرنا، کا خلاصہ کرنا، کا خلاصہ ہونا۔ــ ھم: لوگوں کو جمع کرنا، کو ایک جگہ اکٹھے کرنا۔ــــ ہ: کا ڈھیر لگانا، انبار لگانا (تعداد یا مقدار میں) بڑھانا۔ــــ ہ: اجلاس بلانا، منعقد کرنا، طلب کرنا۔ــ ہ: (رقم، عدد) جمع کرنا۔ــ ہ: (کالم) شامل کرنا۔ــ ہ: گرامر میں کسی لفظ کو جمع بنانا۔ــــ بین: متعدد چیزوں اور شخصوں کو متحد کرنا، جوڑنا، ملانا، منسلک کرنا، یکجا کرنا۔ــــ بین ــــ و: (طاقت و ہمت) کو مجتمع کرنا۔ــ ہ: پر مشتمل ہونا، کی گنجائش رکھنا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا۔ جمع اطراف الشیء: کا خلاصہ کرنا، کی تخلیص کرنا، کا خلاصہ ہونا۔ جَمَعَ البراعةَ من أطرافِها: بہت قابل، لائق، کارکن، یا کارگزار ہونا، عمدہ کام کرنا، اعلیٰ ترین طور پر اچھا کام کرنا۔ جَمَعَ شَمْلَ القَطِیع: عوام یا گلے کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ یجمع الکتابُ بین صفحاتها: کتاب۔ پر مشتمل ہے۔ یُجْمَع بیتٌ علی بُیُوت: بیت (گھر) کی جمع بیوت ہے۔ جَمَّعَ ہ: کا ڈھیر لگانا، انبار لگانا، کو تعداد یا مقدار میں بڑھانا، کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا۔ــــ ھم: لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا۔ــ ہ: کے پرزے جوڑنا، کے پرزے یکجا کرکے پوری کل (مشین) بنانا۔ جَامَعَ ھا: عورت سے ہم بستری کرنا۔ أَجْمَعَ علی: پر اتفاق کرنا، متفق ہونا، پر اتفاق رائے سے فیصلہ دینا، کرنا، کا پختہ ارادہ کرنا۔ أَجْمَعُوا أمْرَهُم: انہوں نے مشترکہ فیصلہ کیا، انہوں نے سمجھوتا کیا۔ تَجَمَّعَ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، مجتمع ہونا، ڈھیر ہونا، انبار ہونا، بستہ ہونا، ڈلا بن جانا، گچھا سا بن جانا، منجمد ہونا، جمنا، جم جانا۔ اِجْتَمَعَ: مجتمع ہونا، اکٹھے ہونا، اکٹھے آنا، ملنا، شامل ہونا۔ــ ب: سے متحد ہونا، جڑنا۔ــ (تنظیم کمیٹی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وغیرہ) کا اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا، اجلاس کے لئے جمع
ہونا ــــ مع / ب: کے ساتھ ہونا، اکٹھا ہونا، سے
ملاقات کرنا، انٹرویو کرنا، مشورہ کرنا، بات چیت کرنا،
مذاکرات کرنا ــــ علی: پر اتفاق کرنا، متفق ہونا۔
اِسْتَجْمَعَ ہ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یکجا کرنا ــــ
قُوَاهُ: اپنی طاقت مجتمع کرنا ــــ افکارَهُ: اپنے
خیالات مجتمع کرنا۔ ہ: کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا۔
ــ ہ: کا مالک ہونا، پر قابض ہونا، کو رکھنا، کو ملانا، یکجا
کرنا، کو بیک وقت رکھنا، کا بیک وقت مالک ہونا۔
جَمْع: اجتماع، مجموعہ، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اتحاد، دھڑا،
ایکا، تعلق، جوڑنا، ملانا، ڈھیر، انبار (حساب) جمع،
اتحاد، انضمام، ادغام، جملہ اشیاء ــ بین: کی وحدت،
کا اتحاد۔ جمع جُمُوع: اجتماع، بھیڑ، ہجوم، انبوہ،
ازدحام، ٹولی، دستہ، گروہ، جھنڈ، رسالہ۔ (حساب)
جمع ـ جمعُ الشَّمل: اتحاد، وحدت، دغام، انضمام،
اسم الجمع: اسم جمع ـ جَمْعُ (الید): مٹھی۔
جُمْع و جُمْعُ الكفِ و جُمْعُ الید: مٹھی۔
بجُمع یدیه: مٹھیوں سے۔ جُمْعَة جمع جُمَع و
جُمَعَات: ہفتہ، جمعہ (کا دن) یوم الجمعہ: جمعہ۔
جمعة الآلام: حضرت مسیح کے مصائب کا ہفتہ۔
الجمعة العظیمة و یوم الجمعة الحزینة: گڈ
فرائیڈے۔ ایسٹر سے پہلے کا جمعہ جس میں حضرت مسیح
کی تصلیب منائی جاتی ہے۔ جَمْعِیّة جمع جمعیات:
کلب، انجمن، سماج، معاشرہ، سوسائٹی، تنظیم،
کارپوریشن، اسمبلی ـ جمعیة الأمم: انجمن اقوام۔
جمعیةُ الإسعاف: سول ایمبولنس سروس ـ جمعیة
عُمُومِیّة و جمعیة عامّة: جنرل اسمبلی، عام
اجلاس، اجلاس عام ـ جمعیة تعاونیة: انجمن امداد
باہمی ـ جمعی: مجموعی، کلی، پورا، سارا، تمام، تمام کا
تمام، سارا کا سارا، سب ـ جمیع النـاس: سب
لوگ، ساری نوع انسانی ـ الجمیع: سب لوگ، ہر
شخص، سبھی لوگ ـ جمیعًا: یک جسم، سب ملا کر، کل،
سب کے سب، سب، پورے کا پورا، سراسر ـ أجْمَع
جمع أجْمَعُون مونث جَمْعَاء جمع جُمَع: سب،
سارا، تمام، جملہ، پورا، کامل، پورا کا پورا، سب کا سب،
کامل، بے کم و کاست، پورا پورا ـ العالم الاسلامی
اجمع: تمام اسلامی دنیا ـ الدار جمعاءَ: پورا گھر۔
بأجْمَعِهِ: مکمل طور پر، سب کو ملا کر، جملہ، بحیثیت،
مجموعی، بالکل، پوری حد تک، کامل طور پر، کاملاً۔
جُمَاع: میزان، پوری رقم، مجموعہ، کل میزان ـ جُماع
کَهْرَبَائِی: برقی مخزن، برقی ذخیرہ، مخزن برق

storage battery ـ جَماعة جمع جَماعَات:
(لوگوں کا) گروہ، رسالہ، ٹولہ، جتھا، ٹولی، جمعیت،
حلقہ، پارٹی، قوم، عام لوگ، تمام لوگ، سکواڈ (فوجی)۔
جماعاتٍ و افرادًا: گروہوں میں اور فرداً فرداً ـ جَماعِیّ:
اجتماعی، مشترکہ ـ مَجْمَع جمع مَجامِع: جگہ جہاں دو یا
زائد چیزیں ملیں، اتحاد کی جگہ یا مقام، مقام اتصال،
اجلاس، اجتماع، مذہبی اجتماع (عبادت گزاروں کی)
جماعت، خصوصی اجتماع، کونشن اسمبلی ـ مجمع
علمی: اکاڈیمی، ارباب کلیسا کی انجمن ـ مجمع
بَلَدِیّ: صوبائی کلیسائی مجلس ـ مجمع
اِکْلِیرِیکی: پادریوں کی مجلس ـ اخذ مَجامع
القلوب: دلوں کو جیت لینا، دلوں کو لبھانا، فریفتہ
کرنا ـ بمَجامع عینیه: مکمل ارتکاز، پورے انہماک
سے ـ مَجْمَعِی: رکن اکاڈیمی، مجلس علمی کا رکن۔
تجمیع: مشین کے پرزے جوڑ کر پوری مشین بنانا۔
جِماع: ہم بستری، کوئی چیز جو دوسری چیز یا چیزوں پر
مشتمل ہو ـ الخمر جماعُ الاثم: شراب گناہ میں
مبتلا کرتی ہے، شراب گناہ کا برتن ہے ـ اِجماع:
اتفاق، کامل ہم آہنگی، بالاتفاق رائے ـ اجماع الرای:
اتفاق رائے ـ اجماع علی: کا بالاتفاق عزم۔
اجماع: کسی قانونی مسئلہ میں ماہرین کا اتفاق
رائے، اسلامی قانون کے چار اصولوں میں سے ایک
اصول ـ بالاجماع: اتفاق رائے سے ـ إجماعی:
عام اتفاق پر مبنی، متفق، ہمہ گیر، عالم گیر، اجماعی،
شریکہ ـ سب کا ـ تَجَمُّع جمع تجمعات: اکٹھے آنا،
ملاقات، اجتماع، فوجی ارتکاز، بھیڑ، ہجوم، انبوہ،
اژدحام، عوام، عوام الناس، گولا، ڈلا، چیپ، لیس،
چپیدگی (طب، کیمیا) ـ اجتماع جمع اجتماعات:
(ب: کے ساتھ ملاقات) اجتماع، اجلاس، غیر رسمی
تقریب یا اجتماع، بچھڑے ہوؤں کا اجتماع، ریلی،
کونشن، جوڑ، میل، ساتھ، اتحاد، ستاروں کا جھرمٹ،
جھمکا یا مجمع، بچھتر (دریاؤں کا) سنگم، کسی سماجی گروہ
میں زندگی، جماعتی زندگی، سماجی زندگی ـ الاجتماع:
انسانی سماج، معاشرہ ـ اجتماع الطُرُق: چوراہا۔
عِلمُ الاجتماع: عمرانیات ـ علماءُ الاجتماع:
ماہرین عمرانیات ـ اِجتماعی: جماعتی، قومی، سماجی،
معاشرتی، اشتراکی، عمرانیاتی ـ وزارة الشؤون
الاجتماعیة: وزارت معاشرتی امور ـ الحالة
الاجتماعیة: ذاتی حیثیت، انفرادی حیثیت، نجی
حیثیت ـ الخدمة الاجتماعیة: سماجی کام یا
خدمت ـ المساواة الاجتماعیة: سماجی برابری

مساوات ـ الهیئة الاجتماعیة: انسانی معاشرہ۔
اجتماعیة: اشتراکیت ـ جامِع: قابل فہم، قابل
شمول، پورا، مکمل، جامع، وسیع، عام، عالمگیر، ہمہ گیر، جمع
کرنے والا، (کتاب) کا مولف، ٹائپ سیٹ کرنے
والا، ٹائپ کے حروف جوڑنے والا ـ جمع جَوامِع:
مسجد ـ مسجد جامع: جامع مسجد ـ جامِعة جمع
جامِعات: انجمن، یونین، ایسوسی ایشن، فیڈریشن،
قوم، مذہبی لوگ، مذہبی فرقہ یا جماعت، اشتراک
مفادات یا مقصد، یونیورسٹی ـ جامعة الكهرباء:
برقی مخزن، برقی ذخیرہ، برقی مخزن accumlator۔
جامعة الأُمَم: انجمن اقوام ـ الجامعة
الاسلامیة: اتحاد اسلامی، اتحاد عالم اسلامی۔
الجامعة العَرَبِیّة: اور جامعة الدُوَل العربیة:
عرب لیگ ـ جامعة شعبیة: یونیورسٹی اکسٹنشن،
تعلیم بالغاں کے کورس، شام کو پڑھائے جانے والے
کورس ـ جامِعِی: جامعاتی، تعلیمی، درسی، کلیاتی۔
مَجْمُوع: جمع کیا ہوا، یکجا کیا ہوا، اکٹھا کیا ہوا،
مجموعیت، پورا، تمام، مجموعی، رقم، میزان (حساب)۔
الحروف المجموعة: ٹائپ حروف ـ مجموع
اراضی القُطر: ملک کا کل رقبہ ـ مجموعُ طوله:
کی کل لمبائی ـ المجموعُ العَصَبِی: اعصابی
نظام ـ مجموعة جمع مجموعات: مجموعہ، (فن
پاروں، ڈاک کے ٹکٹوں، کہانیوں وغیرہ کا)، تالیف،
تدوین، فہرست، درختوں جزیروں کا) مجموعہ، (اخبارات
میں مضامین کا) سلسلہ، بیٹری battery، اتحاد، انجمن،
(ریاستوں کا) بلاک، اجتماعی تنظیم، جملہ، مجموعہ
(عمارات کا) بلاک یا کمپلکس: نظام اعلامیہ، سرکاری
خبرنامہ، بلیٹن ـ موقت الشیوع چیز (جیسے اخبار، رسالہ
وغیرہ) ـ المجموعة الشمسیه: نظام شمسی۔
مجموعة صِناعِیَة: سنڈیکیٹ، تعاونی انجمن۔
مُجَمِّع: جمع کرنے والا، فراہم کرنے والا، برقی
مخزن، مخزن برق، برقی مخزن ـ مُجْمَع علیه: متفق،
بالاتفاق رائے سے، جس پر اتفاق کیا گیا ـ مُجتمَع
جمع مُجتمَعات: اجتماع کی جگہ، اکٹھا ہونے کی جگہ،
ملنے کی جگہ، وعدہ کی ملاقات کا مقام، اجتماع، اجلاس،
سوسائٹی، سماج، معاشرہ، انسانی معاشرہ، قوم، پنچایت،
تنظیم جس میں کام کرنے والے اس کے مالک بھی
ہوں۔ جیسے وہ کھیت جس میں کام کرنے والے کھیت
کے مالک ہوں، تعاونی تنظیم۔
جمك: الجامكیّة جمع جامِكیّات و الجَوامِك جمع
جَوامِك: سول اور فوجی ملازمین کی تنخواہ (ترکی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لفظ)۔

جمل: جَمَلَ ـجَمْلاً الشيءَ: کو جمع کرنا۔أَجْمَلَ الشيءَ: کو جمع کرنا یا کا بطور اجمال ذکر کرنا۔کہا جاتا ہے:أجمل الحساب و الكلامَ ثم فَصَّلَهُ و بيَّنه: اس نے پہلے حساب اور گفتگو کا مجملاً ذکر کیا پھر اس کی تفصیل کی۔حسابُ الجُمَّل: ابجد میں جمع شدہ حروف تہجی کا حساب، اس کو حساب الابجدیہ بھی کہا جاتا ہے اور شاعر اپنے شعروں میں تاریخیں نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔الجُملَة جمع جُمَل: مجموعہ، جملہ (وہ کلام جو مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہو)۔جملہ اسمیہ: الخيرُ عميمٌ: بھلائی سب کو محیط ہے۔جملہ فعلية: عَمَّ الخيرُ: بھلائی عام ہوئی۔الجُمل: لوگوں کی جماعت۔الجُمل و الجَمَل و الجُمَل و الجُمَّل و الجُمالَة: موٹی رسی۔

۲۔جَمَلَ ـجَمْلاً و اِجْتَمَلَ الشحمَ: چربی پگھلانا۔جَمَّلَ الشحمَ: چربی پگھلانا۔أَجْمَلَ: پگھلی ہوئی چربی کھانا ـــ الشحمَ: چربی پگھلانا۔الجَمِيل: پگھلی ہوئی چربی۔

۳۔جَمُلَ ـجَمَالاً: خوش صورت، خوش سیرت ہونا صفت: جميل مؤنث جميلة۔ جَمَّلَ ہ: کو خوبصورت بنانا۔جامَلَ ہ: سے ساتھ خوش معاملگی سے پیش آنا، کی تواضع کرنا۔أَجْمَلَ الشيءَ: کو خوبصورت بنانا، زیادہ کرنا ـــ في العمل: کام خوش اسلوبی سے انجام دینا ـــ في الكلام: گفتگو نرمی اور احتیاط سے کرنا ـــ في الطلب: طلب میں میانہ روی سے کام لینا۔تَجَمَّلَ: آراستہ ہونا، خوبصورت ہونا، مصائب زمانہ پر صبر کرنا اور ذلت ظاہر نہ ہونے دینا، حیاء کو نہ چھوڑنا اور بری جزع فزع سے دامن کو بچائے رکھنا۔اِسْتَجْمَلَ الشيءَ: کو خوبصورت سمجھنا۔الجَمَال (مص): حسن۔کہتے ہیں: جَمَالَكَ ان لم تفعل كذا: تمہارے لئے یہی زیبا ہے کہ ایسا نہ کرو۔الجَمَالِيَّة: جمالیات، علم جمال۔الجَمِيل: احسان، نیکی۔الجُمَّال: خوبصورت، خوبصورت سے زیادہ خوبصورت۔الجَمْلاء: حسین عورت (اس کے لئے افعل کا صیغہ نہیں آتا جس طرح **ديمة هطلاء** میں)۔

۴۔جَمَّلَ الجيشَ: فوج کو دیر تک روکے رکھنا۔

۵۔أَجْمَلَ القومُ: لوگوں کا بہت اونٹوں والا ہونا۔اِسْتَجْمَلَ البعيرُ: اونٹ کا جوان ہونا۔الجَمَل جمع جِمال و أَجْمَال و جُمْل و جمالة (بتثليث الجيم) و جج جمالات (بتثليث الجيم) و جَمَائِل (ح): اونٹ، ایک یا دو کوہانوں والا (جمل کا اطلاق اونٹنی پر شاذ و نادر ہوتا ہے۔مثلاً کہتے ہیں: شربتُ لبنَ جملي (میں نے اپنی اونٹنی کا دودھ پیا)۔اتخذ الليلَ جَمَلاً: وہ ساری رات چلتا رہا، گویا وہ رات بھر اونٹ پر سوار رہا اور سویا نہیں۔جمل البحر (ح): ایک بڑی مچھلی ـــ اليهود: گرگٹ۔ ـــ الماء: لمبی چونچ والا ایک آبی پرندہ۔الجَامِل (فـــا): اونٹوں کا ریوڑ مع ان کے چرواہوں کے۔اونٹوں کا مالک۔الجَمَّال جمع جَمَّالة: اونٹوں کا مالک یا ساربان۔

○ جَمَلَ ـجَمْلاً ہ: کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا۔جَمُلَ ـجَمَالاً: خوبصورت ہونا، حسین ہونا، خوبرو ہونا، مہربان اور عالی ظرف ہونا، شکیل ہونا، خوش اندام ہونا، دلکش ہونا، دلربا ہونا ـــ ب: کے لئے مناسب ہونا، موزوں ہونا، برمحل ہونا، ٹھیک ہونا، کو پھبنا، کی شایان شان ہونا۔جَمَّلَ ہ/ ہ: کو خوبصورت بنانا، سجانا، آراستہ کرنا، مزین کرنا، سنوارنا، زینت دینا، سنگار کرنا، (بیان) کو چٹ پٹا بنانا، کی بج دھج کرنا۔جامَلَ ہ: کے لئے شائستہ، مہذب، خوش اخلاق یا خوش مذاق ہونا، متواضع ہونا، باادب ہونا، ملنسار ہونا۔أَجْمَلَ ہ: کا میزان لگانا، جمع کرنا، کو کل سمجھنا، کا مجموعی طور پر ذکر کرنا، کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا ـــ : پرلطف ہونا، اچھی طرح کرنا، سلیقہ سے کرنا۔تجمَّل: اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، سجانا، اپنی بج دھج کرنا۔تجامَل: ایک دوسرے سے خلیق ہونا، متواضع ہونا، دوستی کا برتاؤ کرنا، مہربانی اور محبت سے پیش آنا۔جُمْلَة جمع جُمَل: مجموعیت، کلیت، مجموعہ، جمع، میزان، خلاصہ، سب، سارا، تمام گروہ، غول، جھنڈ، ٹولی، جسم، جمگھٹا، بھیڑ، ہجوم، انبوہ، تھوک، جملہ (گرامر) چھوٹا جملہ۔جُمْلَةً: مکمل طور پر، سارا، پوری طرح، بحیثیت مجموعی، سب ملا کر، کلی۔في الجملة: عام طور پر، عموماً، بہرصورت۔جملةً واحدةً: یکا یک اچانک، جھپٹا مار کر۔جملةُ الكائنات: ہر موجودہ چیز۔كان من جملة اصحابه: وہ اس کا ایک ساتھی تھا، اس کا تعلق اس کے ساتھیوں سے تھا۔قال في جملة ما قال: علاوہ دیگر باتوں کے، اس نے کہا۔و جملةُ القولِ انَّ و جملة الأمرِ انَّ: الغرض، قصہ کوتاہ، المختصر، خلاصہ یہ کہ، مختصراً یہ کہ۔على الجملة: قصہ کوتاہ، مختصراً۔بالجملة: بحیثیت مجموعی، پوری طرح، سارا، سب ملا کر، کلی، عام طور پر، عموماً، بہرصورت، تھوک کے حساب سے۔جملة الاجرة المستحقة: کل اجرت۔تاجر الجملة: تھوک فروش۔بِسعر الجملة: تھوک قیمت۔جملة اسمية: اسمی جملہ۔جملة فعلية: فعلی جملہ۔جملة إخبارية او خبرية: توضیحی، تشریحی، جملہ۔جملة انشائية: جملہ انشائیہ۔جملة حالية: جملہ حالیہ۔جملة شرطية: جملہ شرط۔جملة معترضة: جملہ معترضہ (گرامر کی کتاب میں تفصیل ملاحظہ کریں)۔حسابُ الجُمَّل: حروف ابجد کا ان کی عددی قیمت کے مطابق استعمال۔جَمَال: خوبصورتی، حسن۔علمُ الجمال: جمالیات۔جميل: خوبصورت، حسین، خوبرو، شکیل، خوش اندام، دلکش، دلربا، دوستانہ عمل، مہربانی، احسان، خدمت، نیکی، خوش اخلاقی، تواضع، شائستگی، نوازش، کرم۔اعتراف بالجميل و معرفة الجميل اور عرفان بالجميل: شکرگزاری، احسان مندی۔نُكْرانُ الجميل: ناسپاسی، ناشکرگزاری، احسان فراموشی، بے وفائی، نمک حرامی۔ناكِرُ الجميل: ناشکرا، احسان فراموش۔حفظ له جميلاً: کو احسان مندی و شکرگزاری سے یاد رکھنا، کو اپنی پیاری یادوں میں رکھنا۔اجمل: زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین۔تجميل: خوبصورت بنانا، تزئین، آراستگی، سنگھار، سجاوٹ، زیبائش، سنگھار کا سامان، غازہ وگلگونہ وغیرہ۔مجاملة جمع مجاملات: خوش اخلاقی، تواضع، شائستگی، نوازش، کرم (کا عمل)، احسان، مروت، شرافت، خلق، تہذیب، انسانیت، دل آویزی، دلکشی، چاپلوسی، خوشامد۔مُجَامَلَةً: دوستانہ طور پر، آشتی سے۔زيارة مجاملة: رسمی ملاقات۔قواعدُ المجاملة: آداب مجلس، پیشہ ورانہ آداب۔اجمال: جمع، جوڑ، میزان، خلاصہ، تلخیص، لب لباب۔إجمالاً: بحیثیت مجموعی، عام طور پر، عموماً، ایک عام اصول کے طور پر۔اِجْمَالاً لذلك اقول: مختصراً عرض کرتا ہوں۔في اجماله: تمام تر، یکسر، عام طور پر، عموماً ایک چیز کے طور پر۔بالاجمال و على الاجمال: عام طور پر، عموماً، بحیثیت مجموعی، فی الجملہ، سب ملا کر، بکل۔بوجه الاجمال: بمعنی إجمالاً۔إجمالي: میزان، سرسری، قابل فہم، قابل شمول، عام مجموعی، مجموعی طور پر، کلی، مکمل، ہمہ گیر، مشترکہ، اجتماعی، سب کا۔تقرير اجمالي: مجموعی رپورٹ۔غرامة اجمالية: اجتماعی یا مشترکہ جرمانہ۔نظرة اجمالية: عام منظر۔

مُجمِل مُجمَل جُملون: تھوک فروش۔مُجمَل: خلاصہ، مُخص، خاکہ، لب لباب، عام تصور، عام خیال، میزان۔بالمُجمَل: تھوک کے حساب سے۔

جمن: ا۔الجُمان: واحد جُمانَة: موتی، فارسی لفظ۔
۲۔الجمناز: ورزش گاہ، دنگل، اکھاڑہ Gymnasium۔
۳۔الـجـمـنـاسـتیك: ورزش کا طریقہ، ورزشی موڑ توڑ، جسمانی موڑتوڑ Gymnastic (یونانی لفظ)۔

جمہ: ا۔جَمهَرَ جَمهَرَةً الشیءَ: کو جمع کرنا، کا بڑا حصہ لینا۔۔ و تَجَمهَرَ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔الجُمهُور جمع جماهیر: لوگوں کا گروہ، چیز کا زیادہ حصہ، قوم کے ذی مرتبہ اور شرفاء، تہہ بتہہ بہت سی ریت۔الجُمهُوری: جمہور کی طرف منسوب، جمہور کی، جمہور کے متعلق، نشہ آور شراب یا پکایا ہوا رس۔
الـجُمهُورِیَّة: قوم یا ملک جس کا صدر ایک مقررہ مدت کے لئے عام مخلوق کی رائے سے چنا گیا ہو۔
المُجَمهَرات: معلقات کے بعد دوسرے درجہ کے ایام جاہلیت کے سات جید قصائد۔
۲۔جَمهَرَ جَمهَرَةً علیه الخبرَ: کو تھوڑی سی خبر دینا اور مقصود کو اس سے پوشیدہ رکھنا۔
۳۔تَجَمهَرَ: زیادتی کرنا۔کہا جاتا ہے: تَجَمهَرَ علینا: اس نے ہمیں حقیر سمجھا اور ہم پر زیادتی کی۔
○ جَمهَرَه/ ہ: کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔تَجَمهَرَ: ایک جگہ جمع ہونا، اکٹھا ہونا، مل کر بیٹھنا یا چلنا۔جُمهُور جمع جَماهیر: بھیڑ، انبوہ، عوام۔الجماهیر: عوام الناس، عوام۔جُمهُوری: جمہوریت پسند، جمہوریت کا حامی، جمہوریۃ کا۔الجمهوریة العربیة المتحدة: متحدہ عرب جمہوریہ۔الجمهوریة الاتحادیة الالمانیة: وفاقی جمہوریہ جرمنی۔الجمهوریة الدیمو قراطیة الالمانیة: جرمن، جمہوری جمہوریہ۔تَجَمهُر: (لوگوں، بھیڑ، عوام کا) اجتماع۔

جما: الجَمَا و الجُمَا: ابھرا ہوا پتھر، جسم کا اٹھا ہوا حصہ جیسے چھاتی۔

جمی: جَمِیَ جَمًیا الماءُ: پانی کا بہت ہونا۔تَجَمَّی القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔جَماءُ و جُماءُ و جَماءَ ةُ الشیءِ: چیز کا جسم، یا جسم۔

جن: جَنَّ جَنًّا و جُنُونًا و جَنانًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا، یا اس کی تاریکی کا خلط ملط ہونا۔۔ جَنًّا و جُنُونًا اللیلُ الشیءَ و علیه: رات کا کسی چیز کو ڈھانپنا، چھپانا۔جَنَّ جَنًّا الجنینُ فی الرَّحم: بچہ کا رحم میں چھپنا۔جَنَّ جَنًّا و جُنُونًا عنه: سے چھپنا۔اَجَنَّ عنه: سے چھپنا۔۔ ہ اللیلُ: کو رات کا چھپالینا، ڈھانپ لینا۔۔ المَیِّتَ: مردہ کو کفنانا، دفنانا۔اِجتَنَّ الشیءَ: کو چھپانا۔۔ و اِستَجَنَّ: چھپنا۔جِنُّ اللیل: رات کی تاریکی۔۔ الناس: لوگوں کی بڑی جماعت۔کہا جاتا ہے: لاجِنَّ بهذا الامر: اس امر میں کوئی پوشیدگی نہیں۔۔ و الجِنَّة: واحد جِنِّیّ مونث جِنِّیَّة: جن، دیو، پری۔الجَانّ جمع جِنَّان: جن کا اسم جمع۔الجَنَّة جمع جِنَان و جَنَّات: باغ۔ارضی یا سماوی فردوس۔الجُنَّة جمع جُنَن: پردہ۔۔ و المِجَنّ و المِجَنَّة جمع مَجَانّ: ہتھیاروں سے بچاؤ کی چیز، ڈھال۔کہا جاتا ہے: قَلَبَ مِجَنَّهُ: اس نے شرم و حیاء کو بالائے طاق رکھا اور خود رائے ہو گیا۔قَلَبَ لهُ ظهرَ المِجَنّ: اس نے اس کی دوستی چھوڑ کر دشمنی اختیار کر لی۔الجَنَن جمع اَجنان: قبر، مردہ، کفن۔الجُنَان و الجُنَانة: ڈھال۔الجَنَان جمع اَجنان: رات یا اس کی سخت تاریکی، مخفی امر، دل۔۔ مِن کلِّ شیءٍ: ہر شئے کا جوف۔الجَنِین جمع اَجِنَّة و اَجْنُن: ہر پوشیدہ چیز، قبر، پیٹ کا بچہ، مدفون۔المَجَنَّة: چھپنے کی جگہ، جنوں والی زمین۔
۲۔جُنَّ جَنًّا و جُنُونًا: پاگل و دیوانہ ہونا۔صفت: مَجنُون جمع مَجَانِین۔اَجَنَّ و جَنَّنَ ہ: کو دیوانہ بنا دینا۔تَجَنَّنَ و اُستُجِنَّ: پاگل ہونا۔تَجَانَّ و تَجانَنَ: اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنا۔مااَجَنَّهُ: فعل تعجب بمعنی وہ کتنا پاگل ہے۔یہ خلاف قاعدہ ہے کیونکہ یہ مفعول کے معنی میں ہے جب کہ فعل تعجب فاعلی معنی دیتا ہے۔الجِنَّة: جنون، دیوانگی، پاگل پن۔الجُنُون و الجُنَن: دیوانگی۔الجُنُون المُطْبِق: کامل دیوانگی۔المَجَنَّة: جنون، دیوانگی۔کہا جاتا ہے: به مَجَنَّة: اس میں دیوانگی ہے۔
۳۔جَنَّ جَنًّا و جُنُونًا النبتُ: سبزہ کا دراز اور گنجان ہونا۔۔ ت الارضُ: زمین کا پھول اگانا۔الجِنّ و الجِنَّة من النبت: پودہ کی کلی، پھول۔۔ من الشباب: آغاز شباب، عنفوان جوانی۔
۴۔جَنَّ جَنًّا و جُنُونًا الذبابُ: مکھیوں کا بہت بھنبھنانا۔کہا جاتا ہے: جَنَّ الذباب بالروض: سبزہ کو دیکھ کر مکھیاں مستی سے بھنبھنا رہی ہیں۔اِستَجَنَّ فلانا: کو کھیل اور طرب کی طرف بلانا۔
○ جَنَّ جَنًّا و جُنُونًا ہ/علی: کو چھپانا، ڈھانپنا۔(رات کا) اتر آنا، پڑنا یا تاریک ہو جانا۔جُنَّ: پاگل

marfat.com

جُنُونُه: پاگل پن سے جوش میں آنا، بدحواس ہو جانا۔جَنَّنَ ہ: کو دیوانہ کرنا، کو غضبناک کرنا، غصہ دلانا، طیش میں لانا۔اَجَنَّ ہ: کو چھپانا، ڈھانپنا، نیز بمعنی جَنَّنَ۔تَجَنَّنَ: پاگل ہو جانا، سودائی ہو جانا۔اِستَجَنَّ: چھپنا، ڈھک جانا۔۔ ہ: کو پاگل و سودائی سمجھنا، خیال کرنا۔جِنّ: اسم جمع: جن، آسیب، بھوت پریت، بھوت، دیو۔جِنِّیّ: عفریتی، آسیبی، بھوت پریت کا، جن، بھوت، دیو۔جِنِّیَّة: پری، بھوتنی۔جَنّات النعیم: بہشت، جنت، فردوس۔ساکِنُ الجِنان: بہشتی، جنتی، وفات شدہ شخص، قابل تعریف یادداشت کا حامل۔جُنَینَة جمع جُنَینات و جَنائِن: باغیچہ، باغ۔جَنائِنِی: باغبان۔جِنَّة: آسیب زدگی، وہم کا غلبہ، خیالی خطرہ، وہمی دہشت، وہم، غلط خیال، جنون، دیوانگی، ضبط، حددرجہ جوش۔جُنَّة جمع جُنَن: حفاظت، پناہ، ڈھال۔جَنَان جمع اَجنان: دل، روح۔جَنَّان: باغبان۔جَنِین جمع اَجِنَّة و اَجْنُن: بچہ جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو، (بیج وغیرہ میں) تخم۔جُنُون: پاگل پن، دیوانگی، وہم، غلط خیال، خبط، خلل دماغ، مالیخولیا، سودا، بیوقوفی، حماقت، اضطراب، ہیجان، طیش، غیض، سخت غصہ، وجد، حال۔الجُنُون فُنُون: پاگل پن کی کئی قسمیں ہیں، دیوانگی اپنے آثار مختلف طریقوں سے ظاہر کرتی ہے۔جُنُونی: پاگل، دیوانہ، مضطرب، بدحواس۔مِجَنّ جمع مَجَانّ: ڈھال۔مَجَنَّة: دیوانگی، پاگل پن۔جَانّ: جن، دیو، بھوت (جمع)۔مَجنُون: پاگل، جس پر کسی کا سایہ ہو، آسیب زدہ، جنونی، دیوانہ، مجنون، سودائی، سنکی، پاگل، مخبوط الحواس، احمق، عجیب و غریب خیالات رکھنے والا۔

جنی: جَنِیءَ جَنَأً: کبڑا ہونا۔صفت: اَجنَأ مونث جَنآء۔جَنَأَ جُنُوءًا و اَجنَأَ اِجناءً و جَانَأَ مُجَانَأَةً و اجتَنَأَ و تَجَانَأَ تَجانُؤًا علیه: کسی کو بچانے کے لئے اس پر اوندھا ہو جانا۔

جنب: ا۔جَنَبَ جَنْبًا ہ: کو دفع کرنا، ہٹانا، دور کرنا۔۔ ہ الشیءَ: کسی سے کوئی چیز دور کرنا۔جَنَّبَهُ الشیءَ: سے کوئی چیز دور کرنا۔۔ تَجَنَّبَ و تَجَانَبَ و اجتَنَبَهُ: سے دور ہونا۔اَجنَبَ ہ: کو دور کرنا۔۔ الرجلُ: دور ہونا۔اِستَجنَبَ: جنب ہونا، ناپاک ہونا۔الجَنب (مص): جانب، طرف، پہلو، آپ کہتے ہیں: قعدت الی جنب فلان و الی جانبه و جَنَابه: میں فلاں شخص کے پہلو یا اس کے ایک جانب بیٹھا۔الجُنُب: دور، نافرمان، اجنبی۔الجارُ الجُنُب: اجنبی ہمسایہ۔الجَنِب: گوشہ نشین، کنارہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کش، اجنبی، مسافر۔الجَانِب جمع جَوَانِب: جانب، گوشہ، طرف، ـــ جمع جُنَّاب: نافرمان، بدیسی، اجنبی۔الجَنَاب جمع أَجْنِبَة: گوشہ، صحن۔الجُنُبَة: وہ چیز جس سے بچا جائے۔الجَـنْـبَـة: جانب، گوشہ نشینی۔الأَجْـنَـب جمع أَجَـانِب: نافرمان ـــ و الأَجْنَبِي: بدیسی، غیرملکی، اجنبی، مسافر۔المِجْنَب: پردہ، ڈھال۔

۲۔جَـنَـبَ ـجَـنْـبًـا ہ: کے پہلو پر مارنا۔آپ کہتے ہیں: ضرب به فجَنَبَهُ: اس نے اس کے پہلو پر مارا۔ جَنبًا و مَـجْـنَـبًـا الـبعـيرَ: اونٹ کو کوتل لے جانا۔صفت مفعولی۔جـنيـب و مُـجَـنَّب و مَجْنُوب مؤنث جَنِيبَة۔ کہا جاتا ہے فرسٌ جَنِيبٌ: کوتل لے جایا جانے والا گھوڑا۔خـيـل جَـنَـائِب: کوتل لے جائے جانے والے گھوڑے۔جُـنِـبَ: پہلو کے درد میں مبتلا ہونا، کو نمونیا ہو جانا، صفت مَـجْـنُـوب۔ جَـانَبَ ہ: کے پہلو میں چلنا۔الـجَـنْـب (مص) جمع اجْـنَـاب و جُنُوب: پہلو۔جـارُ الجَنْب: قریبی ہمسایہ۔ذاتُ الـجَنْب (طب): نمونیا۔الـجَـنَب: کچھ لنگڑا پن۔ جَـنْـبًـا و جَنْبَتَا و جَنَابَتَا الانف: ناک کے دونوں طرف۔الـجانِب جمع جَوَانِب: پہلو۔وہ گھوڑا جس کی ٹانگوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ ہو۔کہا جاتا ہے: هـو لَيِّـنُ الـجـانِب: وہ فرمانبردار ہے، تربیت پذیر ہے۔هو رقيق الجانِب: وہ لطیف ہے۔الجُنَاب او ذات الـجَـنْـب (طب): نمونیا۔الـجَـنَـاب جمع أَجْنِبَة: قریبی محلہ۔کہا جاتا ہے: أخـصـب جـنـابُ الـقــوم: قوم کا مقام سرسبز وشاداب ہے۔فـلانٌ خَـصِيبُ الـجـناب او جديبه: فلاں شخص سرسبز یا قحط زدہ ہے۔الـجِـنَــاب: جَانَبَ کا مصدر۔کہا جاتا ہے فـرسٌ طـوعُ الـجِـنَـاب: جلد رام ہونے والا گھوڑا۔الجنيب: نمونیا کا مریض۔ہر مطیع وفرمانبردار۔الـجَنِيبَة: کوتل جانور۔الـجُـنَّـاب: پہلو میں چلنے والا۔الـمُجَنِّبَة (ا ع): فوج کا ہراول۔المُجَنِّبَتَان من الـجيـش: فوج کا دایاں اور بایاں بازو (میمنہ و میسرہ)۔

۳۔جَنَبَ ـجُـنُـوبًـا الريحُ: جنوبی ہوا کا چلنا۔جُنِبَ و أَجْـنَـبَ و أُجْـنِـبَ الـقـومُ: قوم کو جنوبی ہوا لگنا۔ الجَنُوب جمع جَنَائِب: دکھن، جنوب، دکھنی ہوا۔

۴۔جَـنِـبَ ـجَـنَـبًـا و جَنِبَ ـجَنْبًا اليه: کی طرف مائل ہونا، کا مشتاق ہونا اور کے لئے بے چین ہونا۔

۵۔جَـنُـبَ ـجَـنَـابَـةً الرجلُ: ناپاک ہونا۔الـجُـنُـب: ناپاک (واحد، تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث سب کے لئے یہی مستعمل ہے)۔الجَنَابَة: ناپاکی، نجاست۔

۶۔الجَنْبَة جمع جُنَب من النبات: (ز) ہر وہ پودا جو سبزی سے بڑا اور درخت سے چھوٹا ہو۔المَـجْـنَـب: بہت خیر یا شر۔کہا جاتا ہے إِنَّ عِـنـدنـا خيـراً مَـجْنَبًا و شراً مَجْنَبًا: ہمارے پاس بہت خیر اور بہت شر ہے۔ المَجْنَبَة: سامنے کا حصہ۔

۷۔جَـنْـبَـذَ الـكـيـلَ: پیمانہ کو انتہائی سرے پر پہنچانا۔ الجُنْبُذَة: ہر بلند چیز، اونچی اور گول زمین۔

○ جَـنَـبَ ـجَـنْـبًـا ہ/ ہ: سے کچھ ہٹانا، پھیرنا، موڑنا۔ جَـنَّـبَ ہ ہ: سے کوئی چیز دور رکھنا، ہٹانا، کو کے راستہ سے باہر رکھنا۔تَـجَـنَّـبَ ہ: سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا، سے دور رہنا، کے راستہ سے نکل جانا۔جَانَبَ ہ: کے پہلو میں ہونا یا چلنا ـــ ہ: کے ساتھ ساتھ دوڑنا، کے برابر دوڑنا، کے کنارے کنارے جانا، کے کنارے واقع ہونا، کے پہلو میں واقع ہونا، سے پہلو تہی کرنا، گریز کرنا، احتراز کرنا۔تَـجَانَبَ و اجتنب بمعنى تَجَنَّبَ۔ اجتنب ہ: کے پہلو میں ہونا، کے ساتھ ساتھ دوڑنا، کے ساتھ دوڑنا، کے کنارے کنارے جانا، کے کنارے واقع ہونا، کے پہلو میں واقع ہونا۔ جَـنْـب جمع جُنُوب و اَجناب: پہلو، رخ، طرف۔جَنْبَ: کے پہلو میں، کے ساتھ، کے کنارے کے نزدیک، کے مقابلے میں، کے پاس سے باہر، کے علاوہ۔جَنْبًا إلى جَنْبٍ یا جَنْبًا لِجَنْبٍ: پہلو بہ پہلو۔بَيْنَ جَنْبَيْهِ: کے اندر، کے اندر اندر۔مـابَـيْـنَ جَنْبَيْه: جس پر یہ مشتمل ہے، اس کی محتویات، مضمون، مافیہ۔عـلـى جَـنْــبٍ: ایک طرف، ایک جانب، پرے، الگ، علیحدہ، جدا۔ذاتُ الجنب: پھیپھڑے کی جھلی کا ورم، ذات الجنب، ذات الصدر۔جَنْبَة جمع جَنَبَات: پہلو، طرف، علاقہ، رقبہ۔فـي جَـنَـبَـاتِـه: اس میں، اندر۔ ضَمَّهُ بين جنباته: پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا، کی گنجائش رکھنا۔جَـنَـبَـاتُ الغُرفة: پورا کمرہ۔ بيـن جـنـبـات الغُـرفة: کمرے میں، کمرے کے درمیان میں ـــ زاخِرُ الجَنَبَات: لبالب، کھچا کھچ، مونہا منہ بھرا ہوا، چھلکنے یا پھٹنے کی حد تک بھرا ہوا۔ جَـنْـبِي: پہلو کا، بغلی۔جُـنُـب: ناپاکی کی حالت میں جس کے لئے غسل ضروری ہو، قبیلے سے غیر متعلق، غیر رشتہ دار۔الـجـار الجنب: پڑوسی جو کنبہ سے نہ ہو۔ جَنَاب: احترام کا خطاب۔والا جناب۔جنابکم: آپ، جناب والا۔جَـنَـابَـة: ناپاکی (جو غسل سے دور ہو...

جنوب جَنُوبًا: جنوب کی طرف، جنوب کے رخ۔ جَـنُـوبِي: جنوبی، دکھنی۔جـنـوبـي افـريـقـيـا: جنوبی افریقہ۔جانِب جمع جَوَانِب: طرف، پہلو، رخ، بغلی حصہ، ایک طرف کا ٹکڑا، لشکر کے پہلو کا حصہ، بازو، سامنے کا حصہ، رخ، پیش، حصہ، جزوی رقم، جزوی منظر ـ من: کسی منظر، تصویر یا سیر بین کا حصہ، مقدار، عدد، رقم کا، چند، کچھ۔مـن جـانـبـه: اس کی طرف سے۔من جانبٍ ـ من جانبٍ آخر: ایک طرف تو ......دوسری طرف۔بـالـى جـانـبـه: کی طرف، کے پتہ پر، اس کے پہلو میں کے ساتھ۔بـالـى جـانـب اور بـجـانـب: کے پہلو بہ پہلو کے علاوہ سے قطع نظر۔ وَضَـعَـهُ جـانِبًـا: کو ایک طرف یا ایک جانب رکھنا۔ ودعه جانِبًا: کو ایک طرف چھوڑ دینا، کو چھوڑ دینا، نہ کرنا۔فـي جـانـبِ: کے مقابلے میں، کے بارے میں، کے متعلق۔مـابـيـنَ جَوَانِبِهم: ان کے دل۔ جانبا الفم: منہ کے کنارے۔جانبٌ من: کی بڑی مقدار، کی کوئی مقدار، کی بڑی رقم، تعداد، کافی، کچھ۔ جـانِـبٌ كـبيـرٌ من: کافی، کا بڑا حصہ۔هـو عـلـى جـانـبٍ كبير من: وہ بہت......ہے۔كـان على جانبٍ عظيم من الكرم: بہت فیاض ہونا۔على جـانـبٍ عظيم من الاهمية: بڑی اہمیت کا۔على أعظم جانبٍ من الخُطُورة: انتہائی اہمیت، عظیم ترین اہمیت کا۔فـي كـل جانب: ہر جگہ، ہر طرف۔ خـفـض لـه جـانـبَه: کے لئے اپنے انکسار کا مظاہرہ کرنا، سے مروت اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، سے مہربانی سے پیش آنا، سے منصفانہ شرائط کے ساتھ ملنا۔ اَمِـنَ جـانـبَـه: سے محفوظ ہونا۔لـم اُعِـرْهُ جـانـبَ اهتـمـام: میں نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی۔خــاف (رهـب، هـاب) جـانـبَهُ: سے خوف کھانا، خوفزدہ ہونا۔مـلكُ الـجـانـب: شاہی واراضی۔جـانـبُ الـمِـيـري: خزانہ عامرہ، سرکاری خزانہ۔لَـيِّـنُ الـجـانـب: شریف، سلیم الطبع، فرمانبردار، اطاعت شعار، تربیت پذیر۔لِـيـنُ الـجـانـب: شرافت، نرمی، شائستگی حلم، بردباری۔رَحْـبُ الـجـانـب: کشادہ، وسیع، فراخ، گنجائش والا، کھلا۔رقـيـق الـجـانِـب: دوستانہ دل آویز، دلکش، شریف، سلیم الطبع۔مـرهـوب الـجـانـب: خوف زدہ، دہشت زدہ۔عـزيـز الـجـانـب: طاقتور، قوی، مضبوط، بزاز ورآور، بہت طاقتور، دیوہیکل۔عـزة الجانب: قوت، طاقت، اختیار، قابو، اقتدار، حکومت۔مُـهِـيبُ الـجـانـب: محترم، جس سے ڈر آئے۔في جوانبِ الدار: تمام

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

گھر میں۔اکثر فی جوانبه: میں جَانِبِي: بغلی، پہلو کا۔اجْنَبِي: غیر ملکی، پردیسی، جمع جانب: غیر ملکی، پردیسی۔البلاد الاجنبية: بدیسی ممالک غیر ممالک، بیرونی دنیا۔فِرْقَةُ الاجانب: خصوصی فوجی یونٹ، خصوصاً رضا کاروں پر مشتمل جو کسی دوسرے ملک کی فوج کے ساتھ خدمات دے رہا ہو۔ foreign legion۔جَنَّابية جمع جنابیات: کنارہ، پشتہ، بند، سیلابی پشتہ، بغلی پانی کی گذرگاہ، بغلی سڑک، بغلی ریلوے لائن، پانی کے بند کا دروازہ یا دریا کا پشتہ کھولنے پر پانی نکلنے کا ضمنی راستہ۔تَجَنُّب: احتراز گریز، کنارہ کشی۔اِجْتِنَاب: احتراز، گریز، کنارہ کشی۔مُجَنِّبَة (فوج کا) بازو، پہلو کا حصہ: میمنہ، میسرہ۔

○ جُنَاز و جُمْبَاز: جسم کی طاقت اور خوبصورتی بڑھانے کے لئے ورزش، زنانی کسرت، جسمانی کرتب، ورزشی کرتب۔جُنْبَازِي و جُمْبَازِي: ورزشی۔کسرتی الالعاب الجُمْبَازية: کسرتی یا ورزشی مشقیں، جسمانی مشقیں۔

جنث: تَجَنَّثَ الرجلُ: غیر قوم میں سے ہونے کا دعوی کرنا ــــ عليه: سے محبت کرنا، پر مہربان و شفقت کرنا ــــ الطائرُ: پرندے کا بازو پھیلا کر بیٹھنا۔ الجُنْثِيّ جمع جُنْثِيَّة: عمدہ لوہا، تلوار۔

جنح: جَنَحَ ـ جُنُوحًا اليه: کی طرف مائل ہونا۔أَجْنَحَ ه: کو مائل کرنا، جھکانا ــــ اليه: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔اِجْتَنَحَ: ایک پہلو پر جھکنا ــــ اليه: کی طرف مائل ہونا۔تَجَنَّح: ایک پہلو پر جھکنا۔اِسْتَجْنَحَ ه: کو مائل کرنا، جھکانا ــــ اليه: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔الجِنْح: پناہ، کنارہ۔جِنْحُ الطريق: راستہ کی ایک جانب۔الجَانِح جمع جَوَانِح: جانب۔کہا جاتا ہے جَانِحُ البيت: گھر کی ایک جانب۔ الجَنَاح جمع أَجْنُح و اَجْنِحَة: پرندے کا بازو۔ (اسی سے ہے انا فی جناح فلانٍ: میں فلاں شخص کے سایہ عاطفت میں ہوں)، کنارہ۔الجَوَانِح واحد جَانِحة (ع ا): پسلیاں۔

۲۔جَنَحَ ـ جُنُوحًا ت السفينةُ: کشتی کا تلے پانی میں پہنچ کر زمین سے لگ جانا ــــ جَنْحًا الطائرُ: پرندے کے بازو پر مارنا۔جَنَّحَ ه: کو بازو بنانا۔ الجَنَاح جمع جُنُح و اَجْنِحَة (ع ا): پرندے کے پر۔ (کہتے ہیں رَکِبُوا جَنَاحَي الطائرِ: وہ اپنے وطن کو چھوڑ گئے۔رَكِبَ جَنَاحَي النعامة: اس نے اس معاملہ میں بڑی کوشش اور عجلت سے کام لیا۔ھو مَقْصُوصُ الجَنَاح: وہ عاجز اور ناکارہ ہے) ــــ جمع أَجْنُح من الانسان: انسان کا ہاتھ، بغل، بازو اور پہلو۔خوات الجناحَين (ح): مکھیوں کی قسم کے حشرات الارض۔اس کی اقسام میں سے مستقیمات الاجنحه، مُغَمَّدَة الاجنحه اور نصفية الاجنحه ہیں۔الجَنَاحِيَة (ز): خشک پھل جس کا خول لمبے باریک پر کی طرح پھیلا ہو۔اسی سے زرد پھولوں اور خاردار پتوں والے بڑے درخت کا پھل ہے۔

۳۔جَنَحَ ـ جُنُوحًا الليلُ: رات کا آجانا۔الجِنح و الجُنح من الليل: رات کا ایک حصہ۔الجُنَاح: چیز کا ایک حصہ۔الجَنَاح جمع اَجْنُح و اَجْنِحَة: چیز کا ایک حصہ۔

۴۔جَنَّحَ الرجلَ: کی طرف گناہ کی نسبت کرنا۔الجُنَاح: گناہ۔اسی سے ہے لا جناحَ عليكَ: تمہارا کوئی گناہ نہیں۔

○ جَنَحَ ـ جُنُوحًا ل/الی: کی طرف مائل ہونا، کی طرف میلان ہونا، کی طرف رغبت ہونا، جھکنا ــــ اِلي: کا سہارا لینا، کا رخ کرنا، سے جا ملنا، کو ملانا، سے تعلق رکھنا ــــ علی/الی: کشتی کا ساحل پر چڑھ جانا ــــ عن: سے جدا ہونا، سے ہٹنا، منحرف ہونا، تجاوز کرنا، انحراف کرنا۔جَنَّحَ ه: کو پر مہیا کرنا، کو پر یا بازو دینا۔ اَجْنَحَ الی/لِ: کی طرف مائل ہونا، کی طرف میلان ہونا، رغبت ہونا، جھکنا، کا سہارا لینا، کا رخ کرنا، کی طرف توجہ کرنا ــــ: کشتی کا ساحل پر چڑھ جانا۔جِنح: جانب۔جُنح و جِنح: تاریکی، دھندلکا۔فی جنح الليل: رات کی تاریکی میں، رات کے پردے میں۔ بينَ جُنْحَي الكَرَى: رات کو جب ہر شخص سویا ہوا ہو۔جُنْحه جمع جُنَح: چھوٹا جرم (سنگین جرم، جنایہ سے کم اور خلاف ورزی سے بڑھ کر)۔جَنَاح جمع اَجْنِحَة و اَجْنُح: (پرندہ، ہوائی جہاز، عمارت، فوج کا) کا بازو، جانب، پہلو، رخ، طرف۔انا فی جناحه: میں اس کی حفاظت میں ہوں۔علی جناح الاثير: ایتھر کی لہروں پر، لاسلکی کے ذریعے۔علی جناح السُرعة: پروں کی عجلت سے۔جُنَاح: چھوٹی غلطی، گناہ۔لا جناحَ عليه ان: اگر وہ...... تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا، اسکے خلاف میری رائے قائم نہیں کی جائے گی، وہ مجرم نہیں گردانا جائے گا۔ اَجْنَح اِلی: کی طرف زیادہ مائل، راغب۔جَنُوح اِلی: کی طرف مائل، میلان رکھنے والا۔جُنُوح: میلان، رجحان، رغبت، اِلی (کی طرف)۔

○ جَانِح: پہلو، جانب، رخ، طرف، بازو، (فوج وغیرہ کا)

جَانِحة جمع جَوَانِح: پسلی (جمع جوانح)، دل، روح، سینہ۔بينَ جَوَانِحي: میرے سینہ میں، دل میں۔طَفَرَتْ جَوَانِحُها: وہ خوشی سے جوش میں آگئی، وہ خوشی سے کانپنے لگی۔مُجَنَّح: پردار، پنکھ دار۔

جند: اَجْنَدَ الجُنُودَ: فوج جمع کرنا۔کہا جاتا ہے: جُنُودٌ مُجَنَّدَة: جمع شدہ لشکر۔جیسے کہا جاتا ہے اُلُوفٌ مُؤَلَّفَةٌ: (ہزاروں ہی ہزاروں)۔تَجَنَّدَ: فوجی سپاہی ہونا، لشکر مہیا کرنا ــــ للامر: کسی کام کے لئے فارغ ہونا۔الجُنْد جمع اَجْنَاد و جُنُود: واحد جُنْدِيّ: لشکر، فوج۔التجنید: لشکر یا فوج بھرتی کرنا یا جمع کرنا۔التجنید الإجبارِيّ: جبری فوجی بھرتی۔

۲۔الجُنْد جمع اَجْنَاد: شہر۔أَجْنَادُ الشام: دمشق۔حِمْص و قِنَّسْرِين: اردن، فلسطین۔الجَنَد: سخت زمین، مٹی سے مشابہ پتھر۔

۳۔جَنْدَرَ الكتابَ: کتاب کے مٹے ہوئے حصے پر قلم پھیر کر حروف کو ابھارنا۔الجُنْدار جمع جَنَادِرَة: محافظ فوج، باڈی گارڈ (فارسی لفظ)۔

۴۔الجُنْدُب و الجنْدَب جمع جَنَادِب (ح): ایک قسم کی ٹڈی جسے عام لوگ قبوط کہتے ہیں۔

۵۔جَنْدَلَ ه: کو پچھاڑنا۔الجَنْدَل واحد جَنْدَلَة جمع جَنَادِل: بڑی چٹان۔

○ جَنَّدَه: کو فوج میں بھرتی کرنا، جبری بھرتی کرنا، جبری بھرتی کے حکم کے تحت بلانا، کو فوج کے خاص دستہ کے لئے چننا ــــ ه علی: (فوج) کو کے خلاف حرکت میں لانا۔تَجَنَّدَ: فوج کے خاص دستہ کے لئے چنا جانا، جبری بھرتی کیا جانا، فوجی خدمت کے لئے بلایا جانا۔جُنْد (مذکر و مؤنث) جمع جُنُود و اَجْنَاد: فوج کے سپاہی، فوج۔جُنْدُ الخَلاص: مُکتی فوج۔جُنْدِيّ جمع جُنُود: فوجی سپاہی، سپاہی کے درجے کا فوجی۔جُنْدِيٌّ اوّل: درجہ اول کا فوجی سپاہی۔جندی مُسْتَجِدّ: رنگروٹ۔الجندی المَجْهُول: گمنام سپاہی۔جُنْدِيَة: فوجی معاملات، فوجی امور، فوج، لشکر، فوجی خدمت، فوجی ملازمت۔ تَجْنِيد: فوجی بھرتی، فوج میں جبری بھرتی، نئی بھرتی، فوجی دستہ، جنگ کے لئے فوج کی تیاری۔التجنيد الاجباری: جبری فوجی بھرتی۔جبری بھرتی کا قانون، جبری فوجی خدمت۔تَجَنُّد: فوجی خدمت۔مُجَنَّد: رنگروٹ، نیا فوجی سپاہی۔

○ جِنْدَارِيّ: علم بردار، نشان بردار، سالار، قائد، کارنٹ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

○ خُنْدُب جمع جَنادِب: جھینگر۔

○ جَنْدَرَ ہ: میلے کپڑے مشین میں نچوڑنا اور دھلے ہوئے کپڑوں پر استری کرنا۔ جَنْدَرَة: میلے کپڑوں کو مشین میں نچوڑنا اور دھلے ہوئے کپڑے استری کرنا، شکنجہ، گھماؤ مشین۔

○ جَنْدَرْمَة: مسلح پولیس۔ جَنْدَرِمي: (فرانسیسی فوج کا) مسلح سپاہی۔

○ جُنْدُبِيّ: کستورا مچھلیاں۔

○ جَنْدَلَ: کو زمین پر پٹکنا، گرانا، پچھاڑنا۔ جَنْدَل جمع جنادِل پتھر جمع جَنادِل: آبشار۔

○ خُنْدُول جمع جَناديل: گنڈولی (ایک قسم کی کشتی چپٹے پیندے کی)۔

○ جِنْرَال و جِنرال: جرنیل، سپہ سالار، قائد۔

جنز: ۱۔ جَنَزَ ـ جَنْزًا و جَنَّزَ ہ: کو چھپانا، جمع کرنا۔

۲۔ جُنِزَ: مر کر تابوت میں رکھا جانا۔ جَنَّزَ المیْتَ: میت کو تابوت میں رکھنا۔ ــ الکاهنُ المیتَ: پادری کا میت کی نماز جنازہ پڑھنا، کے لئے دعائے خیر کرنا۔ الجَنّاز عند المسیحیین: میت کے لئے دعائے خیر۔ الجَنازَة و الجِنازة جمع جَنائِز: میت کا تابوت، میت کے جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ، میت۔ مجلس ماتم، میت کی موت سے اسکی تدفین تک)۔ الجَنائِزِيّ: مردوں کے آگے آگے پڑھنے والا۔

۳۔ الجنزار و الجِنْزِير: تانبے کا زنگار (فارسی لفظ)۔ الجُنْزِير: زنجیر (فارسی لفظ)۔

○ جَنَّزَ ہ: مرحوم کے لئے نماز جنازہ پڑھنا، کی تجہیز و تکفین کرنا۔ جِنازَة و جَنازَة جمع جنازات و جنائِز: دعائے مغفرت، مرحومین کو سکون دینے کی دعا، نوحہ، تجہیز و تکفین کی رسوم، ماتمی جلوس، جنازہ۔

○ جَنْزَبِيل: زنجبیل، ادرک، سونٹھ۔

○ جَنْزَرَ (بمعنی زَنْجَرَ): تانبے کے زنگار سے ڈھکنا یا ڈھک جانا، زنگار آلود ہونا۔ جنزار بمعنی زنجار: تانبے کا زنگار، کساؤ۔

○ جِنْزِير (زنجیر) جمع جنازِیر: زنجیر، (ٹینک کے پہیے وغیرہ کی) لیک یا نشان، سادہ پیمائش linear measure۔ طارة جنزیر: نشان والا گراری کا دندانہ، گراری دار پہیہ۔ مُجَنْزَر: نشان ڈالنے والا (پہیہ، گاڑی)۔

جنس: ۱۔ جَنَسَ ـ جَنْسًا التَمْرُ: سب کھجوروں کا پک جانا۔ جَنَّسَ ہ بہ: کو اس جیسا بنانا۔ ــ ہ بجِنْسِيَة بلد من البُلدان: کو کسی ملک کی جنسیت دینا۔ جَانَسَ جِناسًا و مُجانَسَةً ہ: کا مشابہ ہونا، ہم جنس ہونا۔ اسی سے ہے: فلانٌ یجانس البهائم: فلاں شخص چوپاؤں کے مشابہ ہے یعنی ان کی طرح عقل و تمیز نہیں رکھتا۔ تَجانَسَا: باہم، ہم جنس ہونا۔ اسی سے ہے: مع التجانس التآنسُ: ہم جنس ہونے سے ہی انسیت پیدا ہوتی ہے۔ الجِنس جمع أَجْناس: مختلف انواع پر صادق آنے والی ماہیت جیسے الانسان اور گھوڑے میں حیوانیت کی جنس۔ چیز کی ہر قسم چنانچہ مثلاً الابل چوپاؤں کی جنس ہے۔ الجنیس: اپنی جنس میں اصل، اپنی قوم میں شریف۔ الجِناس فی البدیع: علم بدیع کی اصطلاح میں: دو لفظوں کا کلی طور پر یا جزوی طور پر مشابہ ہونا۔ جیسے دیکھنے والی آنکھ اور پانی کے چشمہ میں (یہ دونوں معنی لفظ عین کے ہیں) اور ساہ و ساهر میں (ساہ کا معنی غافل اور ساهر کا معنی ہوشیار ہے) ساہ اور ساهر جزوی طور پر مشابہ ہیں۔ الجِنْسِيَّة: جنس کی حالت یا ماہیت جیسے الجنسية اللُبنانیہ: لبنانی جنسیت۔

۲۔ جَنِسَ ـ جَنَسًا الماءُ و نحوہ: پانی کا جم جانا۔ الجَنَس: جما ہوا پانی۔

○ جَنَّسَ ہ: کو ہم شکل بنانا، مشابہ بنانا، ملتا جلتا بنانا، مطابق اور مانند بنانا۔ ــ ہ: کو اپنے میں سمو لینا، کو اپنی قومیت دینا۔ ــ ہ: کو درجہ وار کرنا، کی قسم بندی کرنا، کی درجہ بندی کرنا، جنسوں میں تقسیم کرنا، جنس وار تیار کرنا۔ جانس ہ / ہ: کا قریبی ہونا، سے ملتا جلتا ہونا، سے تعلق رکھنا، کے مشابہ ہونا، کی قسم یا ساخت کا ہونا، کے مانند ہونا، سے مشابہت رکھنا، کا ہم شکل ہونا۔ تَجَنَّسَ ب: کی شہریت حاصل کرنا، کے حقوق شہریت یا قومیت دیا جانا۔ تَجَانَسَ: باہم سگا، رشتہ دار، قرابت دار یا ناطے دار ہونا، متعلق ہونا، ایک جیسی قسم یا ساخت کا ہونا۔ متجانس یا باہم قسم ہونا۔ جنس جمع اجناس: قسم، جنس، نوع، نسل، جنس (نقد کا الٹ) مختلف چیزوں کا مجموعہ، درجہ، طبقہ، زمرہ، صنف، جنس (مرد و عورت کی)، جنس (تذکیر و تانیث) قوم۔ اسم الجنس: اسم جمع۔ الجِنس البشری: نوع انسانی۔ ابناؤ جنسا: ہمارا ہم قبیلہ۔ هو مصری الجِنس: وہ مصری قومیت کا ہے۔ الجنس اللطیف: صنف نازک۔ الجنس الخشن: صنف کرخت، جنس ذکور، مرد۔ جِنْسِيّ: عام، کلی، جنسی، صنفی، نسلی۔ لاجِنْسِيّ: لاجنس، نر و مادہ کے فرق کے بغیر، جنس یا جنسی عضو کے بغیر، جنسی تعلقات کے بغیر۔ جِنْسِيَّة جمع جِنْسِیّات: قومیت، شہریت، [illegible]

رعایت لفظی۔ جناس: رعایت لفظی، ہم آوازی، ہم آہنگی، قافیہ بندی، یکسانی، مشابہت۔ مُجانَسَة: رشتہ داری، خونی رشتہ، برداری، قرابت، روحانی رشتہ، لگاؤ، تعلق نسبت، چاہ، میلان، اُنس، کشش، مماثلت، مشابہت، یکسانیت۔ تجنس: شہریت کا حصول، قومیت کے حقوق دینا، اپنانا۔ تَجانُس: ہم رنگی، ہم نوعی، ہم جنسی، مشابہت، مماثلت، یکسانیت۔ مُجانِس: مانند، مشابہ، ملتا جلتا، مثل، مطابق، سا، ویسا ہی، مماثل، متعلق، ہم جنس، ایک ذات کا، ہم قسم، یکساں۔ مُتَجَنِّس: حقوق شہریت، عطا کردہ، حقوق قومیت دیا ہوا۔ مُتجانِس: سگا، رشتہ دار، قرابت دار، ناطے دار، ملتا جلتا، یکساں، مشابہ، ہم شکل، ہم قسم و ہم ساخت و ہم طبیعت، ہم جنس۔

جنش: جَنَشَ ـ جَنْشًا الیه: تک ایک دم پہنچنا، کے پاس آنا۔ ــ منه: سے گھبرانا۔ ــ جُنُشًا المکانُ: جگہ کا خشک ہونا، قحط زدہ ہونا۔

جنص: جَنَّصَ: خوف سے بھاگ جانا۔ ــ بَصَرَہ: گھورنا، تیز نظر ڈالنا۔ ــ الطریقُ بالناس: لوگوں کی وجہ سے راستہ کا تنگ ہو جانا۔

جنط: الجنطیان (ن) و جنطیانا: پہاڑی علاقوں میں اگنے والا نیلے پھولوں والا پودا۔

جنف: جَنَفَ ـ جُنُوفًا و جَنِفَ ـ جَنَفًا عن الطریق: راستہ سے الگ ہونا، ہٹ جانا۔ و اَجْنَفَ فی وصیّتہ: اپنی وصیت میں ظلم کرنا صفت: جَنِفَ و اَجْنَف۔ جانَفَ جِنافًا اهلَهُ: غصہ میں آ کر اپنے اہل و عیال سے قطع تعلق کر لینا۔ تَجَانَفَ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔ ــ لِلإثم: گناہ کی طرف مائل ہونا۔ الجَنَف: ظلم، عدل و حق سے تجاوز۔ المجْنَف: فطرۃ حق سے پھرا ہوا۔ الاَجْنَف مونث جَنْفَاء جمع جُنْف: کبڑا، کوزہ پشت۔ التَجَانُف (ف ح): تصویر وغیرہ کے اجزاء کا ایک دوسرے سے بالترتیب ملا نہ رہنا۔ (اسی کا الٹ التراصف ہے)۔

○ تَجَانَفَ من: سے ہٹنا، تجاوز کرنا۔ ــ إلی یال: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔

○ جنیف: جنیوا (ایک شہر کا نام)۔

○ جُنْفاص و جُنْفَیص: ٹاٹ، بوریا۔

جنق: جَنَقَ ـ جَنْقًا و جَنَّقَ الحجرَ: پتھر کو گوپھن (منجنیق) سے پھینکنا۔ المَنْجَنِیق جمع مجانِیق و مجانیق و منجنیقات (ا ع): گوپھن، فلاخن، ایک مشین جس کے ذریعے لڑائی میں پتھر پھینکے جاتے ہیں، (یونانی لفظ)۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جنك: الجُنك جمع جُنُوك (مو): ایک قسم کا باجا (فارسی لفظ)۔

○ جُنك جمع جُنُوك: چنگ، بین، سارنگی، بربط۔

○ جَنُوَا: شمال مغربی اٹلی کی بحری بندرگاہ۔

جنی: ا۔جَنَی ۔جِنَایَةً: گناہ کرنا۔ صفت جان جمع جُنَاة و اَجْنَاء و جُنَّاء مونث جَانِیَه جمع جَوَانٍ و جانِیات ۔ الذنبَ علیه: کے خلاف جارحانہ عمل کرنا۔ جَانَی مجاناةً و تَجَنَّی علیه: کو نا کردہ گناہ سے متہم کرنا۔ الجِنَیَّة: گناہ، جرم، قصور۔

۲۔جَنَی ۔جَنْیًا و جَنِیَّ الثمرَ: درخت سے پھل چننا۔ کہا جاتا ہے جَنَی الثمرةَ له و جَنَاہ اِیَّاها: اس نے پھل کو درخت سے اس کے لئے توڑا۔ ـــ جَنْیًا الذهبَ: سونے کو اس کی کان سے نکالنا۔ اَجْنَی الشجرُ: درخت کا پکے ہوئے پھل لانا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا زیادہ پھل والی ہونا، زرخیز ہونا۔ تَجَنَّی الثمرَ: پھل چننا، توڑنا۔ اِجْتَنَی ماءَ المطرِ: گھاٹ پر آ کر پانی پینا۔ ـــ الثمرَ: پھل چننا، توڑنا۔ الجَنَی جمع اَجناء و اَجْنٍ: چنا ہوا یا توڑا ہوا پھل، شہد، کان سے نکالا ہوا سونا۔ جَنَی الارضِ: گھاس، کھمبیاں جن کی جڑیں کھانے میں ملائی جاتی ہیں۔ ثَمَرٌ جَنِیٌّ: تازہ اور اس وقت توڑا ہوا پھل۔ المَجْنَی: (مصدر میم) جمع مَجَانٍ: وہ جگہ جہاں سے پھل چنا جائے، جس سے پھل توڑا جائے جیسے درخت وغیرہ۔ الجُنَاة: ہر چنی ہوئی چیز۔

۳۔الجَنِیَّة: ریشم کا کپڑا۔

○ جَنَی ۔جَنْیًا ہ: کوئی چیز چننا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کھیت کاٹنا، پیداوار جمع کرنا یا ذخیرہ کرنا، فصل کاٹنا، غلہ جمع کرنا، کئے کا پھل پانا، کو جیب یا تھیلی میں ڈالنا، سے ڈھیروں کمانا ــ ہ من: سے نفع اٹھانا ــ ہ: (نفع فائدہ) حاصل کرنا، (برا نقصان، سزا) مول لینا، اٹھانا، کا باعث بننا۔ جِنَایَةً علی: پر انتہائی ظلم کرنا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کے خلاف ارتکاب جرم یا گناہ کرنا ــ ہ علی: کو (تکلیف) پہنچانا ــ علی: کو نقصان پہنچانا۔ تَجَنَّی علی: پر جرم کا الزام لگانا، کو ملزم قرار دینا، کو جرم سے متہم کرنا، پر الزام دھرنا، کو الزام دینا، قصوروار ٹھہرانا ــ: کمینگی کرنا۔ اِجْتَنَی ہ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، فصل کاٹنا۔ جُنَی: فصل، فصل کی کٹائی۔ جَنِیَّ: پھل (جمع) جِنَایَة جمع جِنَایات: جرم کا ارتکاب، سنگین جرم، مستوجب قتل جرم۔ محکمة الجنایات: عدالت فوجداری۔ جِنَائِي: مجرمانہ۔ محکمة جنائیة: عدالت فوجداری۔ القانون الجِنَائی: تعزیری قانون۔ مَجْنًی جمع مَجَانٍ: چنی ہوئی یا کاٹی ہوئی چیز، فصل، نفع یا فائدہ کا سرچشمہ۔ تَجَنٍّ علی: پر اتہام، الزام، کو ملزم قرار دینا، عمل کا اوسط طریقہ، بے ایمانی کا لین دین۔ جانٍ جمع جُنَاة: مجرم، گنہگار، قصوروار۔ مَجْنِی علیه: جس کو نقصان پہنچایا گیا، زخمی، ستم زدہ شاکی فریق، جرم کا شکار۔

○ جنیف: جنیوا (ایک فرانسیسی شہر کا نام)

○ جِنَیه، و جُنَیه جمع جنیهات: پاؤنڈ، پونڈ۔ جنیه انجلیزی (استرلینی): انگریزی پونڈ، برطانوی پونڈ۔ جنیه مصری: مصری پونڈ (اس کا مخفف ج م ہے)۔

جهة: دیکھو وجه۔

جهب: ا۔الجِهبذ جمع جَهَابِذَة: نقاد، کھرے کھوٹے میں فرق وغیرہ کرنے والا (فارسی لفظ)۔

۲۔الجَهْبَر (ح): شیرنی۔

○ جَهْبَذ جمع جَهَابِذَه: خداداد تنقیدی ذہن والا، بڑا عالم، منور، تابان، نامی گرامی، تیز طبع، ذہین، تیز فہم، ہوشیار، سیانا، عاقل۔

جهج: ا۔جَهْجَهَ بالسبع: درندہ کو روکنے کے لئے للکارنا۔ تَجَهْجَهَ عنه: سے باز رہنا، رک جانا۔ المُجَهْجَه: شیر۔

۲۔جَهْجَهَ الضوءُ: صبح کا روشن ہونا، (سریانی زبان کا عوام میں مستعمل لفظ)۔

جهد: جَهَدَ ۔جَهْدًا فی الأمر: کسی کام میں بہت کوشش کرنا ــ ہ المرضُ: بیماری کا کسی کو لاغر و دبلا کر دینا۔ جَهَدَ و أَجْهَدَ الدابةَ: جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ جُهِدَ: پوری کوشش کرنا، غمگین ہونا، لاغر ہونا۔ جُهِدَ ۔جَهَدًا عیشُهُ: کی زندگی کا مکدر ہونا، گزران مشکل ہونا۔ اَجْهَدَ علینا العدوُّ: دشمن کا ہم سے دشمنی میں پوری کوشش کرنا۔ اَجْهَدَ فی الامر: کسی معاملہ میں احتیاط کرنا ــ الأمرُ لِزیدٍ: زید کے لئے کام ممکن ہونا۔ جَاهَدَ مُجَاهَدَةً و جِهَادًا: پوری طاقت صرف کرنا۔ کہا جاتا ہے جَاهِدُوا فی سبیل اللّٰه حقَّ جهاده: اللہ کے راستہ میں کوشش کا حق ادا کرو۔ العدوَّ: دین کی حفاظت کے لئے دشمن سے جنگ کرنا، اصل میں معنی یہ ہے کہ (ان میں سے) ہر ایک کا اپنے دشمن کو پسپائی پر مجبور کرنے میں پوری کوشش کرنا ہے۔ تَجَاهَدَ و اِجْتَهَدَ فی الأمر: کسی امر میں کوشش کرتے ہوئے پوری طاقت خرچ کر دینا۔ اِسْتَجْهَدَ فی [illegible] امر پر غور کرنا اور چوکس ہو جانا۔ الجُهْد و الجَهد و المَجْهُود: طاقت، استطاعت (کہا جاتا ہے بَذَلَ جهده و مَجْهُودَهُ: اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی)، مشقت۔ کہا جاتا ہے اقسموا باللّٰه جَهْدَا ایمَانِهم: انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم میں حتی المقدور کوشش کی۔ الجَهْدان: وہ شخص جس کو مشقت پہنچی ہو۔ الجِهاد (مص): دین کی حفاظت کی خاطر جنگ۔ الجَاهِد (فا): بے خوابی والا۔ کہا جاتا ہے: جَهْدٌ جَاهِدٌ: بڑی جدوجہد۔ لیلٌ لائِلٌ: تاریک رات۔ شِعرٌ شاعِرٌ: وجدانی شعر، عمدہ شعر۔ الجُهَادَی: انتہاء، آخری حد۔ کہا جاتا ہے جُهَادَاكَ ان تفعل کذا: تم زیادہ سے زیادہ ایسا کر سکتے ہو، ابتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کے بعد مصدر سے مُؤَوَّل جملہ اس کی خبر ہے۔ الجُهَیدَی: جدوجہد، کوشش، پوری کوشش۔ کہا جاتا ہے لأبلغنَّ جُهَیدَایَ فی الأمر: میں اس معاملہ میں اپنی کوشش کو انتہاء تک پہنچا دوں گا۔

۲۔جَهَدَ ۔جَهْدًا و أَجْهَدَ الطعامَ: کھانے کی خواہش کرنا۔ الجَهِید: عمدہ چراگاہ۔ مرعی جهید: عمدہ چراگاہ۔

۳۔جَهَدَ ۔جَهْدًا بالرجل: کا امتحان لینا۔

۴۔جَهَدَ ۔جَهْدًا اللبنَ: دودھ کا تمام مکھن نکال لینا۔ اَجْهَدَ المالَ: مال بکھیرنا، فنا کر دینا۔

۵۔أَجْهَدَ الحقُّ: حق کا ظاہر ہونا ــ فیه الشیبُ: میں بڑھاپا اچھی طرح ظاہر ہو جانا۔

۶۔الجَهَاد جمع جُهُد: سخت زمین، بے برگ و گیاہ زمین۔

○ جَهَدَ ۔جَهْدًا: کوشش کرنا، سخت کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، جان مارنا، بڑی محنت اور کوشش سے (کوئی کام) کرنا، خاص کوشش کرنا ــ ہ: پر بہت زیادہ کام ڈالنا، پر بہت زیادہ ٹیکس لگانا، کو تھکا دینا۔ جَاهَدَ فی سبیل الشیء: کے لئے کوشش کرنا، سخت کوشش کرنا، لڑنا ــ: کافروں کے خلاف لڑنا۔ اَجْهَدَ ہ: کی کوشش کرنا، کی سخت کوشش کرنا ــ ہ: کو تھکا دینا، تکلیف دینا، زحمت دینا۔ اَجْهَدَ نفسَه فی: میں انتہائی کوشش کرنا، کے لئے اپنے اختیارات سے بڑھ کر مدد کرنا۔ اَجْهَدَ فکرَہ فی: صرف وہی کرنا، اپنی ساری توجہ اور طاقت کے حصول پر لگا دینا، تندہی سے کوئی کام کرنا۔ اجتهد فی: کو کرنے کے لئے خاص کوشش کرنا، سخت مشقت کرنا، کسی قانونی یا دینی مسئلہ میں آزاد رائے وضع کرنا۔ جَهْد جمع جُهُود:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

حد سے زیادہ بوجھ، مشقت، سعی، جدوجہد، تندہی، سرگرمی، کوشش۔ فی: کے لئے بڑی محنت اور کوشش، تکلیف بے آرامی، زحمت، وولٹیج voltage۔ جَهَدَ جَهْدَہ اور عمل (حَاوَلَ) جهدَہ: مقدور بھر کوشش کرنا، ہر سمجھ میں آنے والی کوشش کر ڈالنا۔ بِجَهدٍ جَهِید: بڑی مشکل سے، محنت طلب کوششوں سے۔ بَعْدَ جَهْدٍ جَهِید: بڑی مصیبت اور تکلیف کے بعد۔ جهدٌ عالٍ: حد درجہ کا تناؤ۔ جُهْد: حد سے زیادہ بوجھ، مشقت۔ جُهْدَ: کی حد تک۔ جُهْدَ الطاقة: جہاں تک ممکن ہے، جس قدر ممکن (ہے)۔ جُهْدَ طاقتِهِ: جتنا وہ کرسکتا ہے، اس کی قابلیتوں کی حد تک۔ جُهْدَ إمکانه: جتنا وہ کرسکتا ہے، اس کی قابلیتوں کی حد تک۔ جُهْدَما: جس قدر، کی حدود تک۔ جُهْدی: جہاں تک میرا بس چلے جہاں تک میں کرسکتا ہوں۔ جهاد: لڑائی، جنگ، جہاد، کفار کے خلاف جنگ، ایک مذہبی فریضہ کے طور پر۔ جهادی: جنگی، فوجی۔ مُجَاهَدَة: لڑائی، جنگ۔ اجهاد: مشقت، سعی، جدوجہد، تندہی، سرگرمی، ناقابل برداشت محنت لینا، بہت زیادہ محصول لگانا، غیر معمولی زور ڈالنا۔ اِجتهاد: کوشش، مشقت، سعی، جدوجہد، تندہی، سرگرمی، تکلیف، مصروفیت، مشغولیت، کارکردگی، کسی قانونی یا دینی مسئلہ میں آزاد فیصلہ، جو چار اصولوں کی توضیح اور استعمال کی بنیاد پر کیا گیا ہو۔ مَجْهُود جمع مجهودات: کوشش، سعی، جدوجہد، دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، تندہی، سرگرمی، تکلیف کام، تناؤ، کھچاؤ، کشاکش، برقی قوت کی مقدار، وولٹیج (voltage)۔ بَذَلَ مَجْهُودَاتِه: ہر کوشش کرنا، انتہائی کوشش کرنا۔ مُجَاهِد جمع مُجَاهِدُون: لڑنے والا، آزادی کی جدوجہد کرنے والا، جنگجو، نبرد آزما، سارجنٹ sargent۔ مُجْهِد: سرگرم، سخت محنتی، جفاکش، سخت گیر، صبر آزما، تکلیف دہ، تھکا دینے والا۔ مُجْهَد: تھکا ہوا، بہت زیادہ کام کی وجہ سے تھکا ہوا۔ مُجْتَهِد: محنتی، مستعد، جمع مُجْتَهِدُون: مجتہد، ماہر قانون جو قانونی اور دینی معاملات میں آزادانہ فیصلہ کرتا ہو اور یہ فیصلے چار اصولوں کی توضیح اور استعمال پر مبنی ہوں۔ اس کی ضد مُقَلِّد ہے۔

جهر: ۱۔ جَهَرَ ـَ جَهْرًا و جِهَارًا الامرُ: معلوم ہونا، پھیلنا۔ ـــ الشیءَ: کو کھولنا، کا اندازہ کرنا۔ ـــ جَهْرًا و جِهارًا و جَهْرَةً الامرَ و بالأمرِ: کا اعلان کرنا۔ جَاهَرَ مُجَاهَرَةً و جِهارًا ہ بالشیء: سے کو کھلم کھلا ظاہر کرنا۔ أَجْهَرَ الامرَ و به: کا اعلان کرنا۔ تَجَاهَرَ بالأمر: کو کھلے طور سے ظاہر کرنا۔ الجَهْر (مص): آپ کہتے ہیں: کَلَّمتُه جَهْرًا و بالجَهْرِ: میں نے اس سے کھلے اور صاف الفاظ میں بات کی۔ الجَهِير: کہا جاتا ہے: هو عفيفُ السريرة والجهيرة: وہ ظاہر اور باطن کا پاکدامن ہے۔

۲۔ جَهَرَ ـَ جَهْرًا و جِهَارًا بالقول: بات کو بلند آواز سے کہنا، اونچی آواز سے بات کرنا۔ ـ الصوتَ: آواز بلند کرنا۔ جَهُرَ ـُ جَهَارَةً الصوتُ: آواز کا بلند ہونا۔ صفت جَهِیر و جَهِر۔ جَاهَرَ مُجَاهَرَةً و جِهَارًا بالقراءة: بلند آواز سے پڑھنا۔ اَجْهَر بالقراءة: بلند آواز سے پڑھنا۔ جَهُورُ الصوتِ جمع جُهُر: بلند اور قوی آواز والا۔ جَهِير: بلند۔ کہا جاتا ہے: کلام جهير: بلند آواز میں گفتگو۔ امرأة جَهِيرَة: بلند آواز والی عورت۔ الجَهْوَرِيّ: بلند۔ کہا جاتا ہے: صوتٌ جَهْوَرِيٌّ: بلند آواز۔ رجل جَهْوَرِيٌّ: بلند آواز والا مرد۔ المِجْهَر و المِجهَار: اونچی آواز سے باتیں کرنے کا عادی۔

۳۔ جَهَرَ ـَ جَهْرًا و جِهَارًا ہ: کو دیکھنا۔ ـ الرجلَ: کو بے پردہ دیکھنا، آنکھوں میں بڑا معلوم ہونا، کی تعظیم کرنا۔ ـــ و اجْتَهَرَ القومَ: لوگوں کو دیکھ کر زیادہ خیال کرنا۔ جَهُرَ ـُ جَهَارَةً الرجلُ: دیکھنے والے کی نظر میں ذی شان اور ذی عظمت ہونا۔ جَهِرَ ـَ جَهَرًا ت العينُ: سورج سے آنکھوں کا خیرہ ہونا اور چندھیا جانا۔ اَجْهَر: جس کی آنکھ چندھیا گئی ہو۔ مونث جَهْراء جمع جُهْر (مذکر و مونث دونوں کی)۔ اِجْتَهَرَ الرجلَ: کو کھلم کھلا دیکھنا۔ ـ ہ: کو بڑا سمجھنا۔ الجَهْر و الجِهَار: اعلانیہ۔ آپ کہتے ہیں: لقيتُه جَهْرًا او جِهَارًا: میں اس سے علی الاعلان ملا یا اعلانیہ طور پر ملا۔ المُجْهِر او المِجْهَار: خوردبین۔ المِجْهَر الكَهْرَبائی: برقی خوردبین، جو چیز کو لاکھ سے دو لاکھ گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے۔

۴۔ جَهَرَ ـَ جَهْرًا و جِهَارًا الشیءَ: کا حسن اور شکل اچھا لگنا۔ اَجْهَرَ الرجلُ: خوبرو بچوں کا باپ ہونا۔ اِجْتَهَرَ الشیءُ فلانًا: چیز کا کسی کو اپنی ہیئت اور جمال سے حیرت میں ڈال دینا۔ الجُهْر: ہیئت حسن نظر۔ الجَهَارَة و الجُهُورَة: قدبت اور منظر کا حسن۔ الأَجْهَر: خوبصورت ہیئت والا۔ الجَهِير: خوبصورت۔

۵۔ جَهَرَ ـَ جَهْرًا و جِهَارًا السقاءَ: مشکیزہ میں دودھ بلو کر مکھن نکالنا۔ الجَهِير من اللبن: دودھ جس میں

۶۔ جَهَرَ ـَ جَهْرًا و جِهَارًا الارضَ: اجنبی ملک یا زمین میں چلنا۔ جَاهَرَ مُجَاهَرَةً و جِهَارًا القومَ بالأمر: کو کسی بات میں شکست دینے کی کوشش کرنا۔

۷۔ اَجْهَرَ الرجلُ: بھینگے بیٹے کا باپ ہونا۔

۸۔ اِجْتَهَرَ البئرَ: کنویں کو صاف کرنا۔

۹۔ الجَهْر: چوڑا ٹیلہ، زمانہ کا ایک حصہ۔ الجَهِير: بھلائی اور نیکی کے لائق۔

جَهَرَ ـَ جَهْرًا و جِهَارًا: معلوم ہونا، پتہ چلنا، ظاہر ہونا، دکھائی دینا، نظر آنا۔ ـــ ہ/ب: کا اعلان کرنا۔ ـــ ب: کو علی الاعلان کہنا، کا باضابطہ اعلان کرنا۔ ـــ ہ: آواز بلند کرنا۔ جَهُرَ ـُ جَهَارَةً: (آواز کا) بلند ہونا، صاف سنا جاسکنا۔ جَاهَرَ ب: کو کھلم کھلا کہنا، بیان کرنا، صاف صاف ظاہر کرنا، کا اظہار کرنا، کہنا، زبان سے نکالنا۔ جَهْر و جِهار: اعلان عام، شہرت، تشہیر، کھلم کھلا، علی الاعلان اظہار۔ جَهْرًا و جِهَارًا: کھلم کھلا، علی الاعلان اعلانیہ طور پر۔ جَهْرَةً: کھلم کھلا، علی الاعلان، اعلانیہ طور پر، کشادہ دلی سے، صاف دلی سے، کھلے بندوں، صاف گوئی سے۔ جَهْرِيّ: بدنام، رسوا، مشہور، عام۔ جَهِير: اونچی، بلند، (آواز، شور)۔ اَجْهَر: دن کا اندھا۔ اَجْهَر: زیادہ بلند، زیادہ مسموع۔ جُهُورِيّ: بلند (آواز)۔ مِجْهَر: بلند آواز (والا)۔ مِجْهَر جمع مَجَاهِر: خوردبین۔ مِجْهَرِيّ: دوربین کا، دوربینی۔ مِجْهار: بلند آواز (والا)، لاؤڈ سپیکر۔ مُجَاهَرَة: صاف گوئی، حق گوئی، صاف دلی، (کسی کی بات کا) بےلاگ پن، غیر جانبداری۔

جهز: ۱۔ جَهَزَ ـَ جَهْزًا و أَجْهَزَ على الجريح: زخمی کو مار کر اس کا کام تمام کر دینا۔ الجَهِيز من الخيل: تیز رفتار گھوڑا۔ موتٌ جَهِيزٌ و مُجْهِزٌ: ناگہانی یا فوری موت۔

۲۔ جَهَّزَہ: کو تیار کرنا۔ ـــ العروسَ: دلہن کے جہیز کا سامان تیار کرنا۔ ـــ الميتَ: میت کے کفن دفن کا سامان کرنا۔ تَجَهَّزَ للسفر: سفر کے لوازمات لینا۔ ـــ و اِجْهَازَّ للأمر: کسی کام کے لئے تیار ہونا۔ الجِهاز: مختلف اوزاروں سے مرکب آلہ۔ ـــ الباعث و الجهاز المُرْسِل (ف): برقی اشارات بھیجنے کا آلہ۔ ـــ و الجَهاز جمع أَجْهِزَة و أجْهِزات للبيت او للمسافر او للعروس: گھر، مسافر یا دلہن کی ضرورت کا سامان۔ ـ من جسم الانسان: جسم انسانی کے اعضاء جو کوئی خاص غرض کا کام کرتے ہیں جیسے اعضاء تنفس و ہضم۔ الجِهَازَة (ا ع): آتشیں اسلحہ کو حرکت دینے اور استعمال کرنے کو آسان کرنے کا وہ آلہ جو مختلف پرزوں پر مشتمل ہو۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۳- جَهِيزَة: ایک عورت کا نام، ضرب المثل: قطعت جهيزة قولَ كلِّ خطيب: کی اصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند مقررین نے دو قبیلوں کے درمیان خون کے معاملہ میں صلح کرانے کے لئے تقریروں کا سلسلہ چھیڑ رکھا تھا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنے میں جهيزة نے آ کر بتایا کہ مقتول کے ایک رشتہ دار نے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ یہ سنتے ہی لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا جو اوپر درج ہے۔ جس کا معنی ہے کہ اب گفتگو کی گنجائش نہیں رہی کیونکہ قاتل کے قتل کے بعد خون بہا اور اس کی قصاص کا سوال ہی نہیں رہا۔ الجَهْزَاء: بلند زمین۔

○ جَهَزَ ـَـ جَهْزًا على: زخمی کو ہلاک کر ڈالنا، (کسی پر) کاری ضرب لگانا۔ جَهَّزَ ہ: کو تیار کرنا، کا انتظام کرنا، کو مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ ہ ب و ۔ ہ ب: کو کوئی چیز مہیا کرنا، کو سے لیس کرنا، کو ساز و سامان مہیا کرنا، کو سے تیار کرنا۔ اَجْهَزَ على: زخمی کو ہلاک کر ڈالنا، (کسی پر) کاری ضرب لگانا، کو تباہ و برباد کر دینا، ختم کر دینا۔ تَجَهَّزَ: لیس ہونا، مہیا ہونا، فراہم ہونا، تیار ہونا۔ جَهَاز (اس کا تلفظ جِهاز بھی ہے) جمع جَهَازات و اَجْهِزَة: ساز و سامان، ساز و یراق، آلات، (کسی مقصد کا) لباس وغیرہ، گیئر gear، کسی خاص مقصد کے لئے مطلوب ساز و سامان، عروسی لباس، کل، آلہ، مشین، کا پرزہ، اوزار، ہتھیار، سامان، جو چیز لگائی جائے، نظام۔ جَهَازٌ لاسلكي: وائرلیس سیٹ، ریڈیو۔ جهاز راديو: ریڈیو (وصول کرنے کا سیٹ)۔ جهازٌ مُستقبِلٌ و جَهَازُ الاستقبال و جهازُ الالتقاط: ریسیور (receiver)، ریسیونگ سیٹ receiving set (ریڈیو)۔ جهاز مُذِيعٌ و جهازُ الإرسال: ٹرانسمیٹر۔ جهاز تليفزيوني: ٹیلیوژن سیٹ۔ جهاز الحَفْر: تیل کے کنویں پر نصب ڈھانچہ جو سوراخ کرنے کی مشین کو پکڑے رکھتا ہے، زمین میں سوراخ کرنے کا ساز و سامان۔ جهاز دَوْرِيٌّ: گردشی نظام، خون کی گردش کا نظام۔ جهاز لتسجيل الاهتزازات الارضية یا جهاز قياس الهزات الارضية: زلزلہ پیما، زلزلہ نگار۔ جهاز سِرِّيٌّ: خفیہ تنظیم، زیرزمین تنظیم۔ جهاز الاستماع: آواز کی جگہ ڈھونڈ نکالنے کا آلہ۔ الجهاز العصبي: عصبی نظام۔ جهاز الهضم: نظام ہضم۔ تجهيز: ساز و سامان، ساز و یراق تیاری، فراہمی جمع تجهيزات۔ ساز و سامان، گیئر gear۔ تجهيزي: ابتدائی، تیاری کا، کالج کے لئے تیار کرنے والا (سکول)۔ جَاهِز: تیار۔ سلے سلائے (کپڑے)، لیس، مہیا، فراہم شدہ۔ اَلْبِسَةٌ (ملبوسات) جاهِزَةٌ: سلے سلائے کپڑے۔ مُجَهَّز ب: سے لیس، سے مسلح، جسے کوئی چیز مہیا کی گئی ہو، فراہم کی گئی ہو۔

جهش: ۱- جَهَشَ ـَـ جَهْشًا و جُهُوشًا و جَهَشَانًا الیہ: کے پاس روتے ہوئے یا روہانسا ہو کر پناہ لینا جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جَهِشَ ـَـ جَهَشَانًا منه: سے ڈرنا یا بھاگنا۔ ـــ جَهْشًا و جُهُوشًا و جَهَشَانًا الیہ: بمعنی جَهَشَ۔ اَجْهَشَ الیہ: بمعنی جَهَشَ۔ ـ بالبكاء: رونے کے لئے تیار ہونا۔ ـــ ت النفسُ: رونے کا ارادہ کرنا۔ الجَهْشَة: آنسو۔

۲- اَجْهَشَ ہ: کو جلد کرانا۔ الجَهُوش: تیز رفتار۔

۳- الجَهْشَة و الجَاهِشَة: لوگوں کا گروہ۔

○ اَجْهَشَ: ہچکی لینا، سسکیاں لینا یا بھرنا، اچانک سسکیاں لینے لگنا۔ اَجْهَشَ بالبكاء: روہانسا ہونا، آنسو بہانے کے قریب ہونا، آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگنا۔ جَهْشَة جمع جَهَشَات: سسکی، ہچکی، آنسوؤں کا پھٹ پڑنا۔ اِجهاش: آنسوؤں کا پھٹ پڑنا۔

جهض: ۱- جَهَضَ ـَـ جَهْضًا ہ: پر غالب آنا۔ ـــ عن كذا: سے دور کرنا، منع کرنا۔ جَاهَضَ ہ: کو باز رکھنا، سے جلدی کرانا۔ اَجْهَضَ فلانًا: کو پھسلانا۔ ـ ہ عن الأمر: کو سے دور کرنا، ہٹانا۔ ـــ ہ عن مكانه: کو اس کی جگہ سے اٹھانا، الگ کرنا۔

۲- اَجْهَضَتِ المرأة: عورت کا اسقاط حمل کرنا۔ الجِهْض و المُجْهَض و الجَهِيض: وہ بچہ جو قبل از وقت رحم سے گر جائے۔ المِجهاض جمع مَجَاهِيض من الاناث: وہ عورت جس کا حمل گر جاتا ہو۔ الجُهَّاضَة: حیوانات میں سے بوڑھی مادہ۔

۳- الجَاهِض مونث جاهِضَة جمع جَوَاهِض: تیز طبیعت (شخص)۔ الجُهُوضة و الجَهَاضة: طبیعت کی تیزی۔

○ اَجْهَضَ: جھول نکلنا یا لگانا، بچے جننا (جانور کا)، عورت کا اسقاط حمل کرنا۔ اُجْهِضَتْ نَفْسُهَا: وہ اسقاط کی باعث بنی، اس کا اسقاط حمل ہوا۔ جِهْض: رحم مادر میں ضائع ہو جانے والا بچہ، اسقاط کا شکار ہونے والا بچہ۔ جهيض: بمعنی جِهض۔ اِجهاض: اسقاط حمل۔

جهل: ۱- جَهِلَ ـَـ جَهْلًا و جَهَالَةً: بیوقوف ہونا، بدتمیز ہونا، اکھڑ ہونا صفت: جَاهِل جمع جُهَل و جُهَّال و جُهَلاء، و جُهُل و جَهَلَة۔ ـ علیہ: کو نظر انداز کرنا، پر آنکھیں بند کر لینا، (حقیقت پر) التفات نہ کرنا، سے کسی تعلق کا انکار کرنا۔ جَاهَلَ ہ: سے گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا۔ اسی سے ہے: رايتُ منهما مُجاملةً ثم انقلبت مُجاهلةً: میں نے پہلے تو ان کی طرف سے تواضع اور شائستگی دیکھی پھر وہ تواضع اور شائستگی بدتمیزی میں تبدیل ہو گئی۔

۲- جَهِلَ ـَـ جَهْلًا و جَهَالَةً: بے علم ہونا۔ ـ الحقَّ: حق ضائع کر دینا۔ جَهَّلَ ہ: کو جہالت سے متہم کرنا۔ تَجَاهَلَ: جاہل بننا۔ اِستَجْهَلَ ہ: کو جاہل سمجھنا، حقیر جاننا۔ الجَهْلَة: نادانی۔ الجَهُول جمع جُهُلاء: جاہل، ناتجربہ کار۔ المَجْهَل جمع مَجَاهِل: جنگل جس میں کوئی راستہ نہ ہو، بیابان جس میں کوئی نشانات نہ ہوں۔ المَجَاهِل کرہ ارض کی وہ جگہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئیں، اس کا واحد مَجهل (نادانی) ہے۔ جیسے محاسن جس کا واحد حسن ہے۔ اسی سے ہے: انّا لنصفح عن مجاهل قومنا: ہم اپنی قوم کی نادانیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ المَجْهَلَة: بے علمی کا باعث، بے علمی کی ترغیب۔ المَجْهُول من الافعال: وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ ناقةٌ مجهولةٌ: اونٹنی جسے دوہا نہ گیا ہو یا اس پر کوئی داغ نشان نہ ہو۔ الجَاهِلِيَّة: نادانی کی حالت۔ اسلام سے قبل بلاد عرب میں رائج بت پرستی۔

۳- جَهِلَ ت القدرُ: ہانڈی کا بہت اُبلنا۔ اِستَجْهَلَ تِ الريحُ الغُصنَ: ہوا کا درخت کی ٹہنی کو ہلانا۔ المِجْهَل و المِجْهَلَة: کریلنی، انگارے ہلانے کی لکڑی۔

○ جَهِلَ ـَـ جَهْلًا و جَهَالَةً: جاہل ہونا، بے خبر ہونا۔ ـ ب/ہ: کو نہ جاننا، سے ناواقف ہونا۔ ـ: بے وقوف ہونا، بے عقل ہونا، قوت استدلال سے محروم ہونا، غیر منطقی ہونا، بیہودہ، لغو یا مہمل ہونا۔ ـــ على: سے احمقانہ طور پر پیش آنا۔ تَجَاهَلَ ہ: کو نظر انداز کرنا، سے کوئی تعلق رکھنے سے انکار کرنا، پر اپنی آنکھیں بند کر لینا، کسی حقیقت سے بے التفاتی کرنا۔ ـ: جاہل یا بے خبر بننا، ایسا بن بیٹھنا جیسے اسے کوئی پتہ نہیں۔ اِستَجْهَلَ ہ: کو جاہل، بے خبر، یا بیوقوف خیال کرنا یا سمجھنا۔ جَهْل و جَهَالة: جہالت، بے خبری، بے علمی، ناواقفی، بے وقوفی، حماقت، احمقانہ حرکت۔ ـ عن جَهْلٍ: جہالت، بے خبری یا ناواقفی سے۔ ـ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جاہل، بے خبر، بے وقوف، احمق۔ مَجْهَل جمع
مَجَاهِل: نامعلوم علاقہ، علاقہ جس کا کھوج نہ لگایا گیا
ہو۔ مَجَاهِل افريقيا: نامعلوم افریقہ۔ تَجْهِيل:
تضحیک، تردید۔ تَجَاهُل نظر اندازی، بے التفاتی۔
جَاهِل جمع جَهَلَة و جُهَل و جُهَّال و جُهَلَاء
ب سے بے خبر، لاعلم جاہل، بے خبر، غیر تعلیم یافتہ، ان
پڑھ، بے وقوف، احمق۔ جَاهِلِيّ: بت پرست،
مظاہر پرست، غیر اہل کتاب، تاریک خیال آدمی،
اسلام سے قبل زمانے کا۔ جَاهِلِيَّة: بے خبری، لاعلمی یا
نادانی کی حالت، قبل از اسلام مظاہر پرستی، تاریک
خیالی، بت پرستی۔ مَجْهُول: نامعلوم، بے نام، گمنام
مجہول۔ مجهول الاسم: گمنام، بے نام جمع
مَجَاهِيل: نامعلوم چیزیں۔ صيغة المَجْهُول:
(فعل) مجہول۔ مَجْهُولِيَّة: بے خبری، لاعلمی،
نامعلوم فطرت۔

جهم: ۱۔ جَهَمَ ـَ جَهَامَةً و جُهُومَةً: تیوری چڑھانا،
ترش رو ہونا صفت: جَهْم۔ جَهَمَ و جَهِمَ ـَ
جَهْمًا و تَجَهَّمَ ہ و لَهُ: سے ترش روئی سے پیش
آنا۔ کہا جاتا ہے: تَجَهَّمَهُ أَمَلُهُ: وہ اپنی آرزو و امید کی
تکمیل میں ناکام رہا۔ اِجْتَهَمَ: رات کے آخری
چوتھائی حصہ میں داخل ہونا یا اس میں چلنا۔ الجُهْمَة
و الجَهْمَة: رات کے آخری حصوں کا شروع۔
۲۔ أَجْهَمَ الجوُّ: آسمان پر بے بارش بادلوں کا چھا جانا۔
الجَهَام: پانی سے خالی بادل۔ الجَهُوم: عاجز،
کمزور۔
۳۔ الجَهْمَة: بڑی دیگ۔
○ جَهُمَ ـُ جَهَامَةً و جُهُومَةً: تیوری چڑھانا، چیں
بجبیں ہونا، خفگی کی نگاہ سے دیکھنا، گھورنا، گھرکنا،
آنکھیں دکھانا، آنکھیں نیلی پیلی کرنا، قہر آلود نظروں
سے دیکھنا۔ تَجَهَّمَ بمعنی جَهُمَ۔ نیز تَجَهَّمَ ہ/ہ
یا ل: کو خفگی سے دیکھنا، پر تیوری چڑھانا، کو افسردگی
سے دیکھنا، سرد مہری سے دیکھنا، سختی سے دیکھنا۔ ــــ
(چہرے کا) تاریک ہونا، اداس ہونا، بے رونق ہونا،
آزردہ ہونا، بیزار ہونا۔ جَهْم: خفا، آزردہ، بیزار،
بدمزاج، تیرہ و تار، زود رنج، خفا خفا، روٹھا ہوا، اداس،
ترش رو، بدخو، روکھا، اکل کھرا، لوگوں سے دور رہنے
والا، تاریک، اداس، ملول، سونا، بے رونق (چہرہ)۔
جَهَامَة و جُهُومَة: سخت نگاہ، بیزار، خفا یا روٹھا ہوا
اظہار، تاریکی، تیرگی، حزن، افسردگی، چھائی ہوئی
خاموشی۔ جَهَام: بادل (جمع)۔

جهن: ۱۔ جَهَنَ ـَ جُهُونًا: قریب ہونا۔ الجَهْن: ترش
روئی۔
۲۔ جَهَنَّم: دوزخ (غیر منصرف) عبرانی لفظ۔
○ جَهَنَّمِيّ: دوزخی، شیطانی، طاغوتی، جہنم کا، دوزخ کا
(بول چال) کم بخت، منحوس، ناشدنی۔

جهي: ۱۔ جَهِيَ ـَ جَهًا البيتُ: گھر کا اجڑنا، ویران
ہونا، صفت: جاهٍ۔ جَهِيَ الجرحُ: زخم کشادہ کرنا۔
أَجْهَى إِجْهَاءً البيتَ: گھر کو بے پردہ کرنا۔ ــــ
الطريقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ ــــ الطريقَ: راستہ کو
واضح کرنا۔ ــ ت السماءُ: آسمان کے بادلوں کا چھٹ
جانا۔ ــــ القومُ: لوگوں کے مطلع پر سکون ہونا، آسمان
سے ابر ہونا، مطلع صاف ہونا۔ الأَجْهَى و المُجْهِي
مؤنث جَهْوَاء من البيوت: بغیر چھت والا گھر۔ کہا
جاتا ہے: خِبَاءٌ مُجْهٍ: بے پردہ خیمہ۔ الأَجْهَى
مونث جَهْوَاءُ: گنجا۔ بيتٌ جَهْوَانٌ: بے پردہ گھر۔
سماءٌ جَهْوَاء: کھلا آسمان۔
۲۔ جَاهَى مُجَاهَاةً فلانًا: کا فخر میں مقابلہ کرنا۔
۳۔ أَجْهَى عليه: سے بخل کرنا۔

جاب: ۱۔ جَابَ ـُ جَوْبًا و تَجْوَابًا البلادَ: ملک کو طے
کرنا، عبور کرنا۔ اِجْتَابَ البلادَ: ملک کو طے کرنا، عبور
کرنا۔ الجائِب (فا) مسافر۔ جائِبُ العين: شیر۔
الجائِبَة جمع جَوَائِب: پھیل جانے والی خبر، عام خبر۔
کہا جاتا ہے: هل عندك من جائبة خبر: کیا
تمہارے پاس ایسی کوئی خبر ہے جو شہر در شہر چکر لگا رہی
ہو۔ الجَوَّاب: جائب کا مبالغہ کا صیغہ، بہت گھومنے
پھرنے والا۔ ہم کہتے ہیں: جَوَّابُ آفاقٍ: دور دراز
ملکوں کا سفر کرنے والا۔ الجَوَّابَة: بمعنی جَوَّاب:
(تا مبالغہ کی ہے)۔
۲۔ جَابَ ـُ جَوْبًا و تَجْوَابًا الصخرةَ: چٹان میں
سوراخ کرنا۔ اِجْتَابَ الصخرةَ: چٹان میں سوراخ
کرنا۔ ــ البئرَ: کنواں کھودنا۔ الجُوبَة جمع جُوَب:
گڑھا۔ المِجْوَاب: سوراخ کرنے یا پھاڑنے کا
آلہ۔
۳۔ جَابَ ـُ جَوْبًا الثوبَ: کپڑا پھاڑنا، کپڑے کا
گریبان بنانا۔ جَوَّبَ الثوبَ: کا گریباں بنانا۔ ــــ
الشيءَ: کو بیچ سے کاٹنا، قطع کرنا۔ اِنْجَابَ الثوبُ:
کپڑے کا پھٹنا۔ ــ ت السحابةُ: بادل کا کھل جانا۔
اِجْتَابَ القميصَ: قمیص پہننا۔ الجَوْب (مص)
جمع أَجْوَاب: عورت کی قمیص، انگیٹھی، بڑا ڈول۔ ــــ
و المِجْوَب: ڈھال۔ الجَوْبَة جمع جُوَب: گھروں
کے درمیان خالی زمین کا ٹکڑا۔ مُجَوَّب: درمیان سے
[illegible]

۴۔ جَاوَبَ مُجَاوَبَةً ہ: سے گفتگو کرنا، کے سوال کا جواب
دینا۔ أَجَابَ إِجَابَةً و إِجَابًا ہ ۔ سؤالَهُ و عن
سؤالِهِ و إلى سؤالِهِ: کو جواب دینا۔ کہا جاتا ہے:
اجابه إلى حاجته: اس نے خوشی سے اس کی حاجت
روائی کی۔ تَجَاوَبُوا: ایک دوسرے کو جواب دینا،
باہم گفتگو کرنا۔ اِسْتَجَابَ اِسْتِجَابَةً ہ و لَهُ: کو
جواب دینا۔ اللّٰهُ فلانًا و لفلانٍ و من فلانٍ اللہ کا
کسی کی دعاء قبول کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا۔
اِسْتَجْوَبَ اِسْتِجْوَابًا ہ و لَهُ: کو جواب دینا۔ ــ ہ
(في اصطلاح المحاكم): ملزم سے پوچھ گچھ
کرنا، تفتیش کرنا، جرح کرنا۔ الجَابَة: قبولیت۔ کہا
جاتا ہے: اَسَاءَ سمعًا فَأَسَاءَ جابةً: اسی نے برے
طریقے سے سنا اور برے طریقے سے ہی قبول کیا۔
الجَوَاب جمع أَجْوِبَة و جَوَابَات: جواب سوال،
خط، دعاء، اعتراض، مخاطبت وغیرہ کا)۔ الجِيبَة:
جواب کی ہیئت و کیفیت۔ المَجُوبَة: جواب۔
الإِسْتِجْوَاب (مص) (في اصطلاح المجالس
النيابية): مقننہ میں سوال۔ (في عرف
المحاكم): عدالت میں ملزم سے پوچھ گچھ، تفتیش،
جرح۔
۵۔ أَجَابَ ت الارضُ: زمین کا سبزہ اُگانا۔
○ جُوَافَة: امرود، امرود کا پیڑ۔
○ جُوَال جمع جُوَالات: ٹاٹ، بوریا۔
○ جُوَانْتِيّ: دستانے۔
○ جُوب: لہنگا (skirt)۔
○ جوب: جَابَ ـُ جَوْبًا ہ: کسی علاقہ ملک وغیرہ کے
ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنا، پھرنا۔ ــــ
ہ: میں سے گزرنا، کے پار جانا، میں گشت لگانا، کی
سیاحت کرنا، غیر معروف علاقے کی سیاحت کرنا، کو
چیرنا، چھیدنا، میں گھسنا، میں سوراخ کرنا، میں کاٹ کر
راستہ بنانا، کسی علاقہ میں ادھر ادھر پھرنا، آوارہ گردی
کرنا، گشت کرنا۔ جَاوَبَ ہ علي: کو کا جواب دینا۔ ــ
ہ: کو تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا، حکم بجالانا۔ اَجَابَ
ہ/إلى/ عن/ علي: کو سوال کا جواب دینا۔ ــــ ہ:
درخواست کے مطابق عمل کرنا، کو تسلیم کرنا، کا پاس لحاظ
کرنا۔ ــــ ہ: کو سننا، کی درخواست یا خواہشات کو مان
لینا۔ ــــ ہ: خواہش پوری کرنا، تسلیم کرنا۔ ــ إلي: کی
اجازت یا منظوری دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، تجویز
مان لینا، پر اتفاق کرنا۔ اَجَابَ إلي طلبه: درخواست
کی تعمیل کرنا۔ تَجَاوَبَ: ایک دوسرے کو جواب دینا۔
ــ ہ/ب: سے گونجنا۔ ــ آوازوں کا اونچا اور صاف

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونا، باہمی طور پر مماثل یا مساوی ہونا، ہم آہنگ ہونا۔ — مع: صورت حال کا کسی کے لئے موافق ہونا، ساز گار ہونا، مسعود ہونا، نیک شگون والا ہونا۔ اِنْجابَ: (بادلوں کا) بکھر جانا، گزر جانا، پریشانیوں کا دور ہو جانا (تاریکی کا) دھیرے دھیرے اوجھل ہو جانا۔ اِسْتَجابَ ہ: (دعا) سننا، (دعا) کا جواب دینا، (درخواست) منظور کرنا۔ — ل: کی درخواست کی تعمیل کرنا، کی خواہشات کا پاس یا لحاظ کرنا، کا ردعمل ہونا۔ — لِ ب: کو کے ساتھ جواب دینا، — ل: کو بغور سننا، پر توجہ دینا، میں دلچسپی ظاہر کرنا۔ —— ل ب: سے کے ساتھ ملنا، کو کے ساتھ جواب دینا، کو کسی بات سے یا کچھ کر کے جواب دینا۔ —: گونجنا، بار بار گونجنا (آواز وغیرہ کا)۔ — لِ/الی: سے گونج اٹھنا۔ — استجوب ہ: سے پوچھ گچھ کرنا، جرح کرنا، سے سوال کرنا، کا بیان لینا (عدالت میں)، مدعا علیہ یا گواہ کو سننا، پارلیمنٹ میں کسی سے سوال کرنا۔ جَوْب: سفر، (غیر ممالک میں) کھوج، چھید کرنا، سوراخ کرنا، گھسنا۔ جَوْبَۃ جمع جَوْبات و جُوَب: سوراخ، گڑھا، شگاف، راستہ۔ جَوَاب جمع أَجْوِبَۃ: جواب، آدھا سُر، جمع جَوابَات: خط، پیغام۔ جوابُ الشرط: جملہ جزائیہ۔ جَوابی: جوابی۔ جَوَّاب: (غیر ملک میں) سفر کرنے والا، کسی علاقہ سے گذرنے والا، مسافر، غیر معروف علاقہ کی سیاحت کرنے والا۔ اجابۃ: جواب، جواب دینا، جوابی اقدام، ردعمل، جوابی عمل، درخواست، استدعا پوری کرنا، منظور کرنا، رسائی، رضامندی، منظوری، اجازت، خوشنودی، موافقت۔ اجابۃً لطلبکم: آپ کی حسب خواہش، آپ کی درخواست کے جواب میں۔ تَجاوُب: مطابقت، میل، ہم آہنگی، اتفاق۔ استجابۃ: (دعا کو) سننا، دعا کا جواب دینا، درخواست، خواہش کا پورا کرنا، منظور کرنا، گونج، صدائے بازگشت، ہم آہنگی، ہم نوائی، موافقت۔ استجابۃً لِ: کی تعمیل میں، کے جواب میں، کے پاس ادب سے۔ اِسْتِجواب جمع استجوابات: پوچھ گچھ، سوال کرنا، سننا، سماعت کرنا، ملاقات، انٹرویو، (پارلیمنٹ میں) سوال (interpellation)۔ متجاوب: مطابق، ہم آہنگ، شیریں۔ مستجیب: سننے والا، جواب دینے والا، منظور کرنے والا، صدا دینے والا، گونجنے والا، منعکس ہونے والا، گونج دار، گمک دار، گونج پیدا کرنے والا، اثر پذیر، جواب دہ، زود حس، ہمدرد، اثر قبول کرنے والا، متاثر ہونیوالا، زود رنج۔

جوت: جوتہ او قُنَّب کلکوتا او قُنَّب ھندی: سن، پٹ سن، ریشہ وزریں۔

جاح: ۱۔ جَاحَ ـُ جَوْحًا: سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔

۲۔ جَاحَ ـُ جَوْحًا و جِیَاحَۃً و أَجَاحَ و اِجْتَاحَ ہ: کو جڑ سے کھیڑنا، ہلاک کرنا۔ الجَوْحَۃ: سختی، مصیبت، آفت۔ الجائِحَۃ جمع جائِحات و جَوَائِح: بلا، ہلاکت، مصیبت، آفت۔ سنۃ جائِحَۃ: خشک سال۔

۳۔ الأَجْوَح مؤنث جَوْحاء جمع جُوح: وسیع، کشادہ۔

○ جَاحَ ـُ و اجَاحَ: تباہ کرنا، برباد کرنا، نیست و نابود کرنا۔ — ہ: پانی کا زمین پر پھیل جانا، سیلاب کا زمین کو غرقاب کر دینا۔ اجتاح ہ: سیلاب کا زمین کو زیر آب کر دینا؛ — ہ/ ہ: (طوفان سیلاب کا) کو بہا لیجانا، اڑا لیجانا۔ —— ہ: (بلوہ، فساد) کو دبا دینا، فرو کرنا۔ اِجاحۃ: تباہی، بربادی، ہلاکت، تباہ کاری، فناءِ کامل، فصلوں کا نقصان، فصلوں کی تباہی، بری فصل۔ اجتیاح: تباہی، بربادی، ہلاکت، تباہ کاری، فناء کامل بندش، انسداد، روکنا، فرو کرنا، زور توڑنا، تسخیر۔ جائِح: مصیبت انگیز، تباہ کن، برباد کرنے والا، کچل ڈالنے والا، پیس ڈالنے والا۔ جائِحۃ جمع جَوَائِح: تباہی، بربادی، مصیبت، آفت، سانحہ، وباء، فصلوں کا نقصان۔

جاخ: جَاخَ ـُ جَوْخًا السیلُ الوادیَ: سیلاب کا وادی کے کناروں کو بہا لیجانا۔ جَوَّخَ السیلُ الوادیَ: سیلاب کا وادی کے کناروں کو بہا لیجانا، — ہ: کو پچھاڑنا، اکھیڑنا۔ تَجَوَّخَ: بچھڑ جانا، اکھڑ جانا۔ — تِ القرحۃُ: زخم کا پھٹ کر بہنا۔ — تِ البئرُ: کنویں کا گر پڑنا۔ الجُوخَۃ: گڑھا۔ کوجاہ کی تعریب ہے، جس کا معنی وہ کنواں ہے جس کا کوئی پیندہ نہ ہو۔ الجُوخ جمع أَجْوَاخ: اونی کپڑا، بانات۔ الجُوخَۃ: اونی کپڑے کا ٹکڑا، (فارسی لفظ)۔

○ جُوخ جمع اجواخ: پٹو، پٹی (اونی)۔

جاد: ۱۔ جَادَ ـُ جَوْدَۃً و جُوْدَۃً: عمدہ ہونا، اچھا کرنا۔ جَوَّدَ الشیءَ: کو خوبصورت بنانا، عمدہ بنانا۔ أَجَادَ: اچھا کرنا یا کہنا۔ —— ہ النقدَ: کو کھرے کھرے سکے دینا۔ — و أَجْوَدَ الشیءَ: کو عمدہ بنانا۔ تَجَوَّدَ: عمدہ چیز پسند کرنا، — فی صنعتِہ: اپنی کاریگری میں باریکی دکھانا، صنعت میں عمدگی سے کام کرنا۔ تَجَاوَدَ القومُ: یہ غور کرنا کہ صحت کی رو سے کون بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے: ھم یتجاوَدُون الحدیثَ: وہ دیکھتے ہیں کہ کس کی بات زیادہ عمدہ ہے۔ اِسْتَجَادَہ: کو عمدہ سمجھنا، لجَیِّد جمع جِیَاد و جج جیادات و جَیَائد: عمدہ، قابل کا [illegible] تقاضا تو یہ تھا کہ جمع جَیَاوِد ہوتی، مگر واو کو ہمزہ سے بدل لیا گیا ہے اور یہ شاذ ہے۔ رجلٌ او شاعِرٌ مُجِید و مِجْوَاد: عمدہ کام کرنے والا آدمی یا اچھے شعر کہنے والا شاعر۔

۲۔ جَادَ ـُ جَوْدًا ہ: پر بخشش میں غالب ہونا۔ — علیہ پر فیاض ہونا، صفت: جواد۔ — بالمال مال خرچ کرنا۔ — بنفسہ: جان دینا۔ کہا جاتا ہے: انی لَاجاد إلی لقائِک: میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ جَاوَدَ مُجَاوَدَۃً ہ: سے فیاضی میں مقابلہ کرنا۔ أَجَادَ بالولد: فیاض بچے کا باپ ہونا۔ اِستجادَ الأمیرَ: حاکم سے بخشش مانگنا۔ الجَوَاد جمع اَجْواد و أَجاوِد و أَجَاوِد و جُود و جُوْدَۃ و جُوَداء: سخی (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے: رجلٌ جوادٌ و امرأۃ جوادٌ: سخی مرد، عورت۔ الجَوّاد: بہت سخی، بڑا فیاض۔ الأَجْوَد: اسم تفضیل مؤنث جَوْداء (خلاف قیاس) جمع جُوْد و أَجَاوِید: زیادہ سخی۔

۳۔ جَادَ ـُ جَوْدًا ہ الھوی: پر خواہش کا غالب ہونا۔

۴۔ جَادَ ـُ جَوْدًا و جُؤُودًا تِ العینُ: آنکھ کا کثرت سے آنسو بہانا۔ — المطرُ: بہت بارش برسنا۔ صفت جَائِد جمع جَوْد (صاحب اور صحب کی طرح)۔ جِیْدَتِ الارضُ: زمین پر کثرت سے بارش ہونا۔ أُجِیدتِ الأَرضُ: زمین پر کثرت سے بارش ہونا۔ الجَوْد (مص): بہت بارش۔ التَجاوِید: عمدہ نفع بخش بارشیں (اس کا واحد نہیں)۔

۵۔ جَادَ ـُ جَوْدًا و جَوَّدَ و أَجْوَدَ الفرسُ: گھوڑے کا تیز رفتار ہونا۔ جَوَّدَ فی عدوہ: تیز دوڑنا۔ الجَوَاد جمع جِیَاد و أَجْیَاد و أَجَاوِید: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ جَوَادٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ سِرتُ الیہ جوادًا: میں اس کی طرف تیز رفتاری سے چلا۔

۶۔ جِیْدَ الرجلُ: پیاسا ہونا۔ الجُوَاد: پیاس، پیاس کی شدت۔ الجَوْدَۃ و الجُوَادۃ: پیاس۔ المَجُود: پیاسا۔

۷۔ جِیْدَ الرجلُ: ہلاکت کے قریب ہونا۔ أَجَادَ الرجلَ: کو قتل کرنا۔ المَجُود: ہلاکت کے قریب۔

۸۔ جَوَّدَ القارئُ: قاری کا تجوید سے پڑھنا۔ التَجْوِید فی القراءۃ: معروف اصولوں کے مطابق ہر حرف کو اس کا حق دینا۔

۹۔ الجَاد: باطل۔ کہا جاتا ہے: وقعوا فی اِبی جاد: وہ لوگ باطل میں پڑ گئے۔ الجَوَاد: دور۔ کہا جاتا ہے: سِرْنا عَقَبَۃً جَوَادًا: ہم دور کی گھاٹی پر چلے۔ عقبتین جَوَادَیں و عِقابا جیادا: ہم دور کی دو یا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

زیادہ گھاٹیوں پر چلے۔ الجادِی: زعفران۔

○ جَادَ ـُجُودةً: اچھا ہونا یا ہو جانا، بہتر ہو جانا یا ہونا۔ ــ جُوداً ب: کو فیاضی سے عطا کرنا، کو کرنے میں بہت سخی ہونا۔ ــ ب علی: میں پر فراخدل ہونا، کسی چیز کو فیاضی سے کسی کو عطا کرنا، کوئی چیز کسی کو بے انداز دینا۔ ــ علی ب: پر کسی چیز کی بھر مار کرنا۔ ــ ب: کوئی رقم وغیرہ بطور عطیہ دینا۔ جاد بنفسہ: جان دینا، اپنے آپ کی قربانی دینا۔ جادت عیناہ بالدم: کی آنکھوں سے آنسوؤں کا پھوٹ کر نکلنا۔ جادت السماءُ: بارش ہونا۔ جَوَّدَ ہ: کو اچھی طرح کرنا، کو بہتر بنانا، سدھارنا (قرآن کی) تلاوت کرنا (تجوید کے ساتھ)۔ اَجَادَ ہ: کو اچھی طرح کرنا، عمدہ طور پر کرنا، پر کمال حاصل کرنا، میں ماہر ہونا، لائق ہونا، کا ماہر ہونا، (فن یا علم کے کسی شعبہ) سے واقف و آگاہ ہونا۔ ــ اچھی اور عمدہ باتیں کہنا، یا انہیں انجام دینا (شاعر وغیرہ کا) بہت اچھا، ممتاز، مشہور ہونا، عمدہ نتائج حاصل کرنا۔ اَجَادَ لغةً: کسی زبان پر قدرت حاصل کرنا۔ أَجَادَ العزف علی البیانو: پیانو اچھا بجانا۔ اِستَجَادَ ہ: کو اچھا یا عمدہ سمجھنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، ــ ہ ل: کو کیلئے موزوں خیال کرنا یا کسی کے مناسب سمجھنا۔ جُود: فراخدلی، فیاضی، سخاوت۔ جَوْد: بھاری بارشیں۔ جُودَة: عمدگی، شرف، برتری، تفوق، خوبی۔ جَیِّد جمع جِیاد: اچھا، شاندار، بے عیب، نمایاں، عمدہ، اعلیٰ، نہایت عمدہ، خوب۔ جَیِّداً: اچھی طرح، خوب طرح، پوری طرح۔ جَیِّدٌ جِدًّا: بہت اچھا۔ اَجْوَد: بہتر۔ جَوَاد جمع اَجْوَاد و اَجَاوِد و اجاوید و جُود: فراخ دل، فیاض، سخی۔ جَوَاد جمع جیاد و اَجْیاد و اَجاوِید: گھوڑ دوڑ کا گھوڑا، جنگی گھوڑا۔ ابن الأجود: شریف آدمی۔ مُجِید: ماہر، فاضل، ہنرمند، پختہ کار، کاریگر، قابل، لائق۔

جار: ا۔ جَارَ ـُجَوْراً عن الشیء: سے ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے: جار عن الطریق: وہ راستہ سے ہٹ گیا۔ ــ علیه: پر ظلم کرنا، صفت: جَائِر جمع جَوَرَة و جُوَرَة و جارَة۔ جَوَّرَہ: کو ظلم کی طرف منسوب کرنا۔ اَجَارَ اِجارةً ہ عن کذا: کو سے ہٹا دینا۔ اِستَجْوَرَہ: کو ظالم پانا۔ الجَوْر (مص): ظالم۔

۲۔ جَارَ ـُجِوَاراً: فریاد رسی چاہنا۔ اَجَارَ فُلاناً: کی فریاد رسی کرنا۔ ــ ہ من العذاب: کو عذاب سے بچانا۔ ــ المتاعَ: سامان کو حفاظت کے لئے برتن میں رکھنا۔ اِستَجَارَ فلاناً و بہ: سے فریاد رسی چاہنا، کے پاس پناہ لینا۔ ــ ہ من فلان: سے درخواست کرنا کہ وہ اسے فلاں شخص سے بچائے اور پناہ دے۔ الجار جمع جیران و جِیرَة و جِوار و اَجوار: پناہ دینے والا، پناہ گیر۔ الجارَة جمع جارات: بیوی۔ الجِوَار: امان، عہد، ذمہ داری و پیمان۔ کہا جاتا ہے: ھو فی جواری: وہ میری ذمہ داری اور امان میں ہے۔

۳۔ جَوَّرَہ: کو پچھاڑنا ــ البناءَ (ب): عمارت کو مسمار کرنا، گرا دینا، ڈھا دینا۔ تَجَوَّرَ الرجلُ: پچھڑ جانا۔ ــ علی الفراش: بستر پر لیٹ جانا۔ ــ البناءُ (ب): عمارت کا مسمار ہو جانا، ڈھے جانا، گر جانا، منہدم ہونا، کہا جاتا ہے: تَجَوَّرَ خِبَاءُ اللیل: رات کی تاریکی چھٹ گئی۔ الجَوَار: گہرا پانی۔ المُجَوَّر: گہرا۔

۴۔ جَاوَرَ مُجَاوَرَةً و جِوَاراً و جُوَاراً ہ: کے پڑوس میں رہنا۔ ــ المسجدَ: مسجد میں معتکف ہونا۔ تَجَاوَرَ و اجْتَوَرَ القومُ: ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا۔ الجار جمع جیران و جِیرَة و جوار و أَجْوار: پڑوسی۔ جار النھر (ن): نیلوفر سے ملتا ہوا ایک پودا۔ الجَارَة جمع جارات: پڑوسن، سوت۔ الجوار: جَاوَرَ کا مصدر۔ کہا جاتا ہے: اقام فی جوارہ: وہ اس کے پڑوس میں اقامت پذیر ہوا۔

۵۔ الجَوْرُ من الغیث: بہت کڑک اور گرج والی بارش۔ مالٌ جَوْر: بہت مال۔

۶۔ جَوْرَبَ ہ فتَجَوْرَبَ: کو جراب پہنانا، جراب پہننا۔ الجَوْرَب جمع جَوَارِب و جَوَارِبَة: جراب، پائتابہ، موزہ، عوام اسے کلسہ اور قلشینہ کہتے ہیں (فارسی لفظ)۔

۷۔ الجَاوَرس (ن): باجرہ۔

○ جَارَ علی: دوسرے کے علاقے پر تجاوز کرنا۔ جاوَرَہ: کا پڑوسی ہونا۔ ــ ہ: کے متصل ہونا۔ ــ ہ/ہ: کے قریب ہونا، کے قرب و جوار میں ہونا، سے متصل ہونا۔ اجارَہ: کو پناہ دینا۔ ــ ہ من: کی سے حفاظت کرنا، کو اپنی حفاظت میں لینا۔ ــ ہ: کی مدد کرنا، کو امداد دینا۔ تجاوَرَ: باہم پڑوسی ہونا، آس پاس ہونا، مشترک سرحد والا ہونا۔ اِستَجارَ ب من: کی سے پناہ طلب کرنا، سے کے خلاف مدد کی اپیل کرنا۔ جَوْر: ظلم، ناانصافی، زیادتی، زبردستی، ناجائز دست اندازی، جبر، تعدی، جور، ظلم و ستم، تشدد۔ جَار جمع جِیران: پڑوسی، پناہ گیر، زیر حفاظت، یا زیر حمایت شخص۔ وہ شخص جو کسی کی نگرانی میں ہو۔ جِیرَة: پڑوس۔ جُورَة: گڑھا، سوراخ۔ جِوَار: پڑوس، نزدیکی، قرب۔ بجوار ــ: کے پڑوس میں، کے گرد و نواح میں، کے [illegible]

جَائِر جمع جَوَرَة و جارَة: بے انصاف، ناواجب، بدمعاملہ، نامناسب، جابرانہ، مستبدانہ، استبدادی، خودسرانہ، ظالم، جابر، ستمگر، موذی، خودسر۔ مُجَاوِر: پڑوس کا، متصل، قریب، نزدیک جمع مُجَاوِرون: طالب علم (خصوصاً جامعہ ازہر کا) مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والا۔ مُجِیر: حفاظت کرنے والا۔ مُتجاوِر: مشترک سرحد والا، متصل، ملحق، ملا ہوا۔

○ جَوْرجیا: جارجیا: سوویت یونین کے ایک جمہوری ملک کا نام۔

○ جُورِی: دمشقی گلاب، گہرا سرخ رنگ۔

○ جُورِی: جیوری، جماعت منصفین۔

جاز: ا۔ جَازَ ـُجَوْزاً و جُؤُوزاً و جَوَازاً و مَجَازاً المکانَ و بالمکان: کسی جگہ میں چلنا۔ ــ المکانَ: جگہ سے گزر کر آگے بڑھنا۔ جَوَّزَ الإبلَ: اونٹوں کو آگے سے ہانکنا یہاں تک کہ سب گزر جائیں۔ جَاوَزَ المکانَ: جگہ سے آگے بڑھ جانا۔ اَجَازَ اِجازةً الموضعَ: کسی مقام سے آگے بڑھ جانا۔ ــ ہ العقبةَ: کو گھاٹی سے گزار دینا۔ ــ ہ بالف درھم: کو ایک ہزار دینار انعام دینا۔ تَجَاوَزَ المکانَ: کسی جگہ سے آگے نکل جانا۔ ــ فی الشیء: میں افراط کرنا۔ اِجتَازَ: چلنا ــ بالمکان: کسی جگہ سے گزرنا ــ من مکان إلی آخر: ایک جگہ سے دوسری جگہ عبور کرکے جانا۔ الجائِز جمع جَوَائِز و جُوزان و جیزان و أَجْوُز و أَجْوِزَة: دو دیواروں کے درمیان رکھی ہوئی لکڑی۔ الجَائِزَة جمع جَوَائِز: انعام، عطیہ، بخشش۔ جوائزُ الأشعار او الامثال: ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے والے اشعار اور امثال۔ الجَوَاز: ایک چشمہ سے دوسرے چشمہ تک کافی ہونے والا پانی جو مسافر اپنے ہمراہ لے جائے۔ الجَوْزَة: پانی کے ایک مرتبہ پینے کی مقدار جو مسافر ایک چشمہ سے دوسرے چشمہ تک لیجائے۔ الجِیزَة جمع جِیز و جِیَز: پانی کے ایک مرتبہ پینے کی مقدار۔ المَجَاز و المَجَازَة: راستہ، گزرگاہ۔ مَجَازَة النھر: پل۔

۲۔ جَازَ ـُجَوَازاً الامرُ: جائز ہونا، درست ہونا۔ کہا جاتا ہے: جَازَ لَہُ أن یفعل کذا: اس کے لئے ایسا کرنا جائز، ممکن اور روا ہے۔ جَوَّزَ الامرَ: کو روا اور جائز ٹھہرانا ــ الحکمَ: کو جائز سمجھنا۔ جاوَزَ الرجلَ: کو اجازت دینا۔ اَجَازَ اِجازةً الشیءَ: کو جائز کرنا۔ ــ الرجلَ: کو اجازت دینا۔ اِستَجَازَ استجازةً: اجازت مانگنا ــ الامرَ: کو جائز سمجھنا۔ الجائز جمع

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جَوَائِز و جُوْزَان و جِیزَان و اَجْوُز و اَجْوِزَة: مباح، روا۔الجائِزَة: جائز کا مؤنث۔الجَوَاز جمع اَجْوِزَة: امکان، پاسپورٹ، عام لوگ اسے تذکرۃ السفر یا بسابورط کہتے ہیں۔الاِجازَة: اجازت، لائسنس، جامعاتی ڈگری، اصطلاح محدثین میں روایت کی اجازت لفظی یا تحریری طور پر۔المُجِیز (فا): سرپرست، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا یا منتظم، گارجین، غلام جس کو تجارت کی اجازت ہو۔المُجاز: جسے اجازت دی گئی ہو، لائسنس یافتہ، اسی سے ہے: مُجازٌ فی الحقوق: قانون کا سند یافتہ، قانون کی ڈگری کا حامل۔مُجازٌ فی الآداب: آرٹس کی ڈگری کا حامل (بی اے، ایم اے)۔

٣-جَازَ ـُ جَوْزًا و جُؤُوزًا و جَوَازًا و مَجَازًا البیعُ: بیع کا پورا ہونا۔ ـُ جَوَازًا عن الصید: شکار کو پار کر کے نکل جانا۔السهمُ اِلی الصید: تیر کا شکار سے بچ کر نکل جانا۔جَوَّزَ رایَهُ: کی رائے کو جاری اور نافذ کرنا۔اَجَازَ القاضی البیعَ: قاضی کا بیع کو نافذ کرنا۔ــــ الرایَ: رائے کو نافذ کرنا۔الجَائِز جمع جَوَائِز و جُوْزَان و جِیزَان و أَجْوُز و أَجْوِزَة: نافذ۔

۴-جَازَ ـُ جَوَازًا الدرهمُ: درہم کا رائج ہونا، قبول کیا جانا۔جَوَّزَ الدَرَاهِمَ: درہموں کو رائج کرنا۔تَجَوَّزَ الدراهِمَ: کھوٹے درہم قبول کر لینا۔

۵-جَاوَزَ عنِ الذنب: گناہ سے درگزر کرنا۔تَجَوَّزَ عنه: سے چشم پوشی کرنا، کو معاف کرنا۔ــــ فی الأمر: کسی معاملہ کو برداشت کرنا، سے چشم پوشی کرنا۔تَجَاوَزَ عنه: سے چشم پوشی کرنا، کو معاف کرنا۔الجَوَاز: رواداری۔آپ کہتے ہیں: من خُلُقی الجَوَاز: میری افتاد طبع میں رواداری ہے۔

٦-اجَازَ الشاعِرُ: شاعر کا اپنے شعر میں کسی دوسرے شاعر کے کلام میں اضافہ کو استعمال کرنا۔

٧-اَجَازَ اجازَةً علی اسمه: کے نام پر دھبا لگانا۔

٨-تَجَوَّزَ فی الصلاة: نماز میں اختصار کرنا۔ــــ فی کذا: تھوڑی چیز پر اکتفاء کرنا۔

٩- تجوز فی الکلام: مجاز بولنا۔المَجاز: وہ لفظ جو اپنے معنی سے دوسرے مناسب معنی میں استعمال کیا جائے۔

١٠- جَوْز جمع أَجْوَاز الشیء: چیز کا وسط اور اکثر حصہ۔کہا جاتا ہے: قطعوا جوزَ الفلاة: انہوں نے جنگل کا بیشتر حصہ طے کیا۔مضی جوزُ اللیل: رات کا اکثر حصہ گزر گیا۔الجَوْز واحد جَوْزَة (ن): اخروٹ کا درخت۔جوز الهند: ناریل، کھوپرا، کھوپا۔جوز الفَوْفَل او الفوفُل (ن): چھالیہ۔جَوْزَةُ العُنق: آدمی کی گردن کے اگلے حصہ میں ابھار جو ورقی ہڈی سے مرکب ہوتا ہے۔الجِیزَة جمع جِیز و جِیَز: کنارہ، گوشہ، وادی کا کنارہ۔مُجَوَّز (مو): دونالی ہوا با جا۔المَجَازَة و ارضٌ مَجَازَة: بہت اخروٹوں والی زمین، یعنی وہ زمین جہاں اخروٹ کے بکثرت درخت ہوں۔الجَوْزَاء (فلك): آسمان کا ایک برج۔(ح): درمیان میں سفیدی والی سیاہ بکری۔

١١-الجَوْزَل: دیکھو جزل۔

○ جَازَ ـُ جَوَازًا و مَجَازًا ہ: (کسی جگہ سے) گزرنا، کسی جگہ میں سفر کرنا، سے بچ نکلنا: (امتحان، جائزہ) پاس کرنا۔ــــ: جائز ہونا، کی اجازت ہونا، روا ہونا، ممکن ہونا، قابل فہم ہونا، سمجھ میں آنے والی بات ہونا۔ــــ علیه: (حیلہ، چالبازی ترکیب وغیرہ کا) کسی پر چل جانا۔جازت علیه الحیله: اس پر فریب چل گیا، وہ فریب میں آ گیا، جھانسہ میں آ گیا۔جَوَّزَ ہ: کی اجازت دینا، کو ہونے دینا، کو جائز قرار دینا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کی منظوری دینا، کا اختیار دینا، کا جواز پیش کرنا۔جَاوَزَ ہ: کے پاس سے گزرنا، سے آگے جانا، کو عبور کرنا، کو پیچھے چھوڑنا، کی حد سے بڑھنا۔جَاوَزَ الثلاثین من العمر: وہ تیس سال سے زیادہ عمر کا ہے۔ــ ہ: سے زیادہ ہونا، سبقت لیجانا، سے بڑھ جانا۔ــــ عن: کو چھوڑ جانا، نظر انداز کرنا، پر کوئی توجہ نہ کرنا، کو سزا کے بغیر چھوڑ دینا، کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، سے دست کش ہونا۔اَجَازَ ہ إلی: سے تک سفر کرنا، کو عبور کر کے کسی طرف جانا۔ــ ل ہ: کو کوئی اجازت دینا، کو کچھ کرنے کا اختیار دینا۔ــ ہ ہ: کو کچھ کرنے کا اختیار دینا۔ــ ہ: (فیصلہ، حکم) پر صاد کرنا، کو منظور کرنا، کی منظوری دینا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا۔ــ ہ: کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، منظور کرنا، کی منظوری دینا۔تَجَوَّزَ: برداشت کرنا، گوارا کرنا، مصیبت میں پڑنا، مصیبت اٹھانا۔تَجَاوَزَ ہ: کے پاس گزرنا، سے آگے جانا، کی حد سے بڑھنا، کو عبور کرنا، کو پیچھے چھوڑنا۔ــ ہ/علی: سے زیادہ ہونا، سبقت لیجانا، (حد) سے بڑھنا، تجاوز کرنا۔ــــ: بہت دور جانا، تمام حدود سے بڑھنا، تجاوز کرنا، زبردستی مداخلتیں کرنا۔ــــ عن: کو چھوڑ جانا، نظر انداز کرنا، پر کوئی توجہ نہ دینا، کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، سے دست کش ہونا، سے باز رہنا۔اِجْتَازَ ہ: سے گزرنا، [illegible] (گلی) عبور کرنا، (پہاڑی سلسلہ) عبور کرنا، (ملک یا سمندر) کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنا، (فاصلہ) طے کرنا، (خیالات وغیرہ) کا ذہن سے گزرنا، (مصائب، بحران) کو جھیلنا، برداشت کرنا، (بحران پر) غالب آنا، قابو پانا۔اِسْتَجَازَ ہ: کو جائز یا روا سمجھنا۔ــ: اجازت مانگنا۔جَوْز (صحراء وسیع وعریض علاقے کا دل، مرکز۔فی اَجْوازِ: میں، کے وسط میں، کے درمیان میں، کے دوران میں۔فی اجوازِ الفضا: فضا میں۔جَوَاز: جواز، قابل منظوری ہونا، جائز ہونا، مباح ہونا، مناسب ہونا، درست ہونا، قابل تسلیم واقعہ، منظوری کی قابلیت، قانونیت، شرعیت، شریعت پسندی، ضابطہ سے مطابقت، مباحت (سرکاری) اجازت، پرمٹ، لائسنس، حکم، اجازت، اختیار، امکان، قابل فہم ہونا، (امتحان) پاس کرنا۔جواز السفر: (سفر کا) پاسپورٹ۔مَجَاز: عبور کرنا، راستہ، گزرگاہ، راہ، کسی ریاست کا تنگ راستہ جو علاقہ غیر سے ہو کر گزرتا ہو، مجاز، کنایہ، استعارہ، استعارہ بالکنایہ، تشبیہ)۔مجازی اظہار۔مَجَازًا و علیٰ سبیل المَجاز: استعارۃً و کنایۃً، مجازا۔مَجَازی: مجازی، صنائع بدائع سے پُر۔اجازة: اجازت، اختیار، منظوری، لائسنس، جامعاتی ڈگری، پرمٹ، تعطیلات، چھٹی (غیر حاضری کی)۔اجازة الحصر: رجسٹری شدہ چیز (وہ چیز جس کے بنانے اور بیچنے کا حق محفوظ ہو یا جو کسی شخص کے ساتھ مخصوص ہو، پیٹنٹ، (patent) کی منظوری letters patent وہ شخص جس کو حکومت کی طرف سے کوئی چیز بنانے کا اختیار حاصل ہو اور اس کی نقل کرنا قابل گرفت ہو۔اس کا اجراء۔اجازة قُنْصُلِیَّة: کسی حکومت کا دوسرے ملک کے قونصل کو تسلیم کرنا exequatur of a consul۔اجازہ مرضیہ: بیماری کی چھٹی۔الاجازات المدرسیة: سکولوں کی تعطیلات۔غائِبٌ بالاجازة: چھٹی پر، تعطیلات منانے والا۔مُجَاوَزَہ و تجاوُز: عبور کرنا، سے بڑھنا، بنک سے زائد وصولی، فاضل وصولی، بنک سے زائد یا فاضل وصول کرنا۔ــــ عن: سے بے پروائی، بے التفاتی، بے اعتنائی، بے توجہی، سے دست کشی، دست برداری۔اجتیاز: عبور کرنا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنا، نقل مکانی، سفر، مسافرت، راستہ، گزرگاہ، عبور، گزر، (فاصلہ) طے کرنا، (امتحان) پاس کرنا، (مشکلات پر) قابو پانا۔جائِز: جائز، روا، قانونی، ضابطہ کے مطابق، قابل فہم، قابل غور، قابل

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اوراک، سمجھ میں آنے والی (بات)۔ جائزۃ: انعام، جزا، صلہ، معاوضہ، عوض، بدلہ، اجر، مکافات پھل، عطیہ، بخشش، اجرت کے علاوہ دیا جانے والا انعام، بیمہ کی قسط، منافع۔ جائِزَۃ دِراسِیۃ: وظیفہ۔ مُجاز: لائسنس یافتہ، یونیورسٹی کا سند یافتہ۔ جـــوز بمعنی زوج۔ جَوَّزَ: لڑکی کی شادی کرنا۔ جوز جمع اجواز بمعنی جوڑا۔ مِـجْـوَز: ہوا یا جادو نالیوں والا۔ مصری زُمّار سے ملتا جلتا۔ الجَوْزاء: جوزا، مثمن۔ جَوْز واحد جَوْزَۃ جمع جوزات: اخروٹ۔ جوز الطیب: جائپھلی، جائفل۔ جوزُ القَیءِ: ایک درخت کا تخم، کچلا، فارس ماہی۔ جـوز الهنـد، جـوز هنـدی: ناریل، کھوپرا۔ جـوزُ الـقـزّ: ریشم کے کیڑے کی ارتقائی حالت۔ جَـوْزی: سخت پوست کے گری دار میوہ کا یا کے متعلق، سرخی مائل، بادامی۔

○ جَوْزَل جمع جَوازِل: جوان کبوتر۔

جاس: ۱۔ جاسَ ـجَوسًا الشیءَ: کو بہت چاہنا اور بہت انہماک سے تلاش کرنا۔ ـ ـجَوسًا و جَوَسَانًا القـوم بیـن البیـوت و الـدُّور: لوٹ کے لئے گھروں اور مکانوں میں گھومنا۔ جاسَی ہ: سے دشمنی کرنا۔ اِجْتَـاسَ الشیءَ: کو بہت چاہنا اور انہماک سے تلاش کرنا۔ الـجَـوَّاس: قوم میں گھس کر فساد برپا کرنے والا، شیر۔ جَوْسَۃُ الناظر: دیکھنے والی کی تکتکی۔

۲۔ الجَوْسَق جمع جَوَاسِق و جَواسِیق: محل، قصر (فارسی لفظ)۔

○ جاسَ ـجَوسًا خِلالَ: میں غور سے ادھر ادھر دیکھنا، ٹوہ میں لگے رہنا، راز جوئی کرنا، چاروں طرف دیکھنا۔ ــــ ہ: کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، کی تفتیش کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا۔ اِجْتَاسَ بمعنی جَاسَ ہ۔

○ جَوسَق جمع جَوَاسِق: محل، جاگیر، تعلقہ، گاؤں۔

○ جُوَیْطَۃ جمع جَوَائِط: میخ، کھونٹی۔

جاش: جَاشَ ـجَوشًا: رات بھر چلنا۔ تَجَوَّشَ فی الارض: زمین میں داخل ہونا۔ ــــ اللیلُ: رات کا کچھ حصہ گزر جانا۔ الجَوْش (مص): سینہ۔ کہا جاتا ہے: مَضـی جَـوْشٌ مـن اللیل: رات کا شروع یا رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔

۲۔ الجَوْشَن جمع جَواشِن: سینہ، زرہ۔ ــــ من اللیل: رات کا وسط یا اگلا حصہ۔

جاظ: ۱۔ جَاظَ ـجَوظًا و جَوَظَانًا: اکڑ اور تکبر سے چلنا۔ الجَوَّاظ: تکبر سے چلنے والا۔ الجَوَّاظَۃ: بمعنی الجَوَّاظ: ت مبالغہ کی ہے۔

۲۔ جَوَّظَ و تَجَوَّظَ: کوشش کرنا۔

۳۔ جَوَّظَ: تنگ ہونا، بے صبر ہونا۔ الجُواظ: تنگی اور بے صبری۔

۴۔ الجَوَّاظ: اجڈ، اکھڑ، بسیار خور۔

جاع: جَاعَ ـجَوْعًا و مَجَاعَۃً: بھوکا ہونا، صفت: جَائِع و جَوْعان مؤنث: جائِعۃ و جَوْعَی جمع جِیاع و جُوَّع۔ ــــ الیہ: کا مشتاق ہونا۔ جَوَّعَ تَـجْـوِیْـعًا و اَجَاعَ اِجَاعَۃً ہ: کو بھوکا رکھنا، کی خوراک روک دینا۔ کہا جاتا ہے: اَجَاعَ قِدرَہ: اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں بھرا۔ جـائِع الـقِـدر: خالی ہانڈی والا۔ تَجَوَّعَ: بناوٹی بھوکا بننا۔ اِسْتَـجَاعَ استـجاعۃً: کوئی چیز سیر ہو کر نہ کھانا، ہر گھڑی کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا۔ الجُوع و المَجاعۃ: بھوک۔ کہا جاتا ہے: عامُ مَجاعۃٍ او مُجُوعۃٍ: جمع مَجاوِع: بھوک کا سال۔ الـجُـوع الأَغْبَـر: سخت بھوک۔ الـجُـوعُ الـکـلبیّ او الجوع البقریّ (طب): معدہ کی ایک بیماری جس کی وجہ سے انسان کھانے سے کبھی سیر نہ ہو اور اگر سیر ہو جائے تو جلد ہی اس کو پھر بھوک لگ جائے۔ الجَوْعَۃ: تھیلہ کا خالی ہو جانا۔

○ جاعَ ـجَوْعًا: بھوکا ہونا، بھوکوں مرنا۔ جَوَّعَ ہ: کو بھوکا مارنا، کو کھانے کو نہ دینا، کو بھوکوں مارنا۔ اَجَـاعَ: بمعنی جَـوَّعَ۔ جَـوْع: بھوک، فاقہ، فاقہ زدگی۔ مَـاتَ جُوعًا: فاقوں سے مرنا۔ جَوْعَان مؤنث جَوْعَی جمع جِیَاع: بھوکا، فاقہ دیا ہوا، فاقہ زدہ۔ مَجَاعَۃ جمع مجاعات: قحط۔ جَائِع جمع جِیَاع و جُوَّع: بھوکا، فاقے دیا ہوا، فاقہ زدہ۔ تَجْوِیع: کھانا روکنا، کھانے کو نہ دینا۔ اجاعۃ: کھانے کو نہ دینا، کھانا روکنا۔

جوف: ۱۔ جَوِفَ ـجَوَفًا: کھوکھلا ہونا۔ جَافَ ـجَوْفًا ہ بالطعنۃ: کے پیٹ میں نیزہ مارنا۔ جَافَ ہ: کو گہرا کرنا۔ جَـوَّفَ ہ: کو کھوکھلا کرنا، گہرا کرنا، کے پیٹ میں جو کچھ ہو سب نکال لینا۔ اَجَافَ ہ الطعنۃ و بالطعنۃ: کے پیٹ میں نیزہ مارنا۔ تَجَوَّفَ: کھوکھلا ہونا۔ ــــ و اِجْتَافَ ہ: کے پیٹ میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے: اِجْتَـافَ الـوحشـی کناسَہ و تجوّفہ: وحشی جانور اپنے بھٹ میں گھس گیا۔ اِسْتَـجَـافَ و اِسْتَـجْـوَفَ اِسْتَجافۃً الشیءَ: کو کھوکھلا پانا۔ ــــ الشـیءُ: کشادہ ہونا۔ الـجـوف (مص) جمع أَجْوَاف: پیٹ۔ ــــ من البیت: مکان کا اندرونی حصہ۔ الجَوْف (مص) کو کھوکھلا کرنا۔ الجائف (فا) مؤنث الجائفۃ جمع جَوائِف: جوف تک پہنچنے والی چیز۔ الجَائِفَۃ جمع جَوَائِف: پیٹ تک پہنچنے والی نیزہ کی چوٹ یا ضرب۔ الأَجْوَف مؤنث جَـوفاء جمع جُـوف: کھوکھلا، وسیع کوکھ والا۔ الـجَـوفـاء مـن الدلاء: بڑا ڈول۔ ــــ من القناء او الشجر: اندر سے خالی بانس کی برچھی یا درخت۔ الـمَـجُـوف: بڑے جوف والا۔ الـمُـجَـوَّف: کھوکھلا۔ رجـل مُـجَوَّف و اَجْوَف و مَجُوف: بزدل آدمی۔ المُسْتَجاف: وسیع جوف والا۔

۲۔ اَجَافَ البابَ: دروازہ بھیڑ دینا۔

۳۔ الأَجْوَف من الأفعال: وہ فعل جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اور واو ہو، جیسے قَالَ یا یائی ہو جیسے بَاعَ۔ (قول، بیع سے)۔

○ جَوَّفَ ہ: کو کھوکھلا کرنا، کو کھود کر بنانا، یا کھوکھلا کر کے بنانا۔ جَـوْف جمع اَجْـوَاف: کھوکھلا پن، کھوہ، بڑا سوراخ، وادی، خلا، جوف، گڑھا، نشیب، اندر، مرکز، دل، پیٹ۔ فـی جوف: کے اندر، کے اندرونی حصہ میں، کے درمیان۔ فـی جـوفِ الـلیـل یـا جـوف اللیل: آدھی رات کو۔ جَوْفِیّ: اندرونی، زیر زمین، زیر سطح، شمالی مغرب۔ مِیاہٌ جوفیۃ: زمین کے نیچے کا پانی۔ اَجْـوَف مؤنث جـوفـاء: کھوکھلا، خالی، بیکار، لاحاصل، احمقانہ، بے معنی، بے وقوف۔ تـجـویف جمع تـجاویف: کھوہ، بڑا سوراخ، خلا، جوف، گڑھا۔ مُـجَـوَّف: کھوکھلا، کھود کر بنایا ہوا، کھوکھلا کر کے بنایا ہوا۔

جوق: ۱۔ جَوِقَ ـجَوَقًا الوجہُ: منہ کا ٹیڑھا ہونا صفت: اَجْوَق و جَوِق مؤنث جَوْقَاء جمع جوق۔ الأَجْوَق: موٹی گردن والا۔ اَجْوَقُ الفَکِّ: ٹیڑھے جبڑے والا۔ المُجَوَّق: ٹیڑھے جبڑوں والا۔ جَوَّقَ القومَ: لوگوں کو جمع کرنا۔ ــــ علیہ: پر چلانا، شور مچانا۔ تـجـوقـوا: لوگوں کا جمع ہونا۔ الجَوْق جمع اَجْوَاق و الجَوْقَۃ: لوگوں کی جماعت: کہا جاتا ہے: جَوْقَۃُ الملائکۃ و الجوقۃ الموسیقیۃ: فرشتوں کی جماعت، سازندوں کا طائفہ، سنگت، بینڈ باجے والے۔

۲۔ جَوْقَلَ (ا ع): ہوائی جہاز کے ذریعے لوگوں اور اشیاء کو منتقل کرنا۔

○ جَوْق جمع اَجْوَاق و جَوْقَۃ جمع جَوقات: گروہ، رسالہ، تھیٹر والوں کا طائفہ، اوپیرا یا غنائی تمثیل کا ٹولہ، گرجوں میں گانے والوں کا طائفہ، سازندوں کا طائفہ۔ جوقۃ موسیقیۃ: سازندے، سازندوں کا طائفہ۔ مُدِیرُ الجَوْق: سنگیت کا ہدایتکار، بینڈ ماسٹر۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

گرجے کی بھجن منڈلی کا لیڈر۔ جَوْقَةُ الشرف: تعظیمی فوجی دستہ۔

جال: ۱۔ جَالَ ـُ جَوْلاً وَ جُولاً و جُؤُولاً و جَوَلاناً و جِيلاناً في المكان: کسی جگہ میں گھومنا، پھرنا، چکر لگانا۔ ـــ القومُ جولةً: بھاگنے کے بعد پھر حملہ کرنا۔ جَوَّلَ تَجْوِيلاً الارضَ: زمین میں بہت گھومنا، پھرنا۔ ـــ في المكان: کسی جگہ گھومنا، پھرنا، چکر لگانا۔ اَجَالَ الشيءَ و بالشيء: چیز کو گھمانا (کہا جاتا ہے اَجِلْ جائِلَكَ: جس کام کو تو کر رہا ہے اسے پورا کر)۔ ـــ السيفَ: تلوار سے کھیلنا، اسے ادھر ادھر گھمانا۔ اِجْتَالَ اِجْتِيالاً: گھومنا ـــ القومَ: کو ان کے ارادے سے پھیر دینا۔ تَجَاوَلَ القومُ في الحرب: ایک دوسرے کے مقابلہ میں چکر لگانا۔ الجَوَّال و الجَوَّالَة: بہت گھومنے پھرنے والا۔ کہا جاتا ہے: هو جَوَّالةٌ جَوَّابَةٌ: وہ بہت گھومنے پھرنے والا ہے، اور اس نے بہت سفر کئے ہیں۔ الأَجْوَل: اسم تفضیل: بہت گھومنے پھرنے والا۔ المَجَال: چکر لگانے کی جگہ، جہاں گھوما پھرا جاتا ہو۔ المِجْوَل: چھوٹا لباس جس میں لڑکی گھومتی پھرتی ہے۔ کرتی ڈھال۔ جَوَلَانُ الهُمُومِ: غموں کا آغاز۔ الأَجْوَلِيّ: بہت چکر لگانے والا تیز رفتار گھوڑا۔

۲۔ جَالَ ـُ جَوْلاً الشيءَ: کو پسند کرنا۔ اِجْتَالَ منهم جَوْلاً: میں سے کو پسند کرنا۔ الجَوَالَةُ من الشيء: چیز کا بہتر حصہ۔

۳۔ جَالَ ـُ جَوْلاً الترابُ: مٹی کا نہ رہنا۔ جَاوَلَ مُجَاوَلَةً ہ: ایک دوسرے کو دھتکارنا، ہٹانا۔ اِنْجَالَ الغبارُ: گرد و غبار کا اوپر اٹھ کر پھیل جانا۔ اِجْتَالَ الرجلُ الشيءَ: کو لے جانا، کو مسترد کرنا۔ ـــ اَمْوَالَهُم: کو لیجانا۔ اِسْتَجَالَ اِسْتِجَالَةً أَموالَهُم: کو لیجانا۔ الجَوْل و الجُوْل: وہ مٹی جسے ہوا سطح زمین پر اڑاتی پھرے۔ الـجَوَلان و الـجُولان: وہ مٹی جسے ہوا ادھر ادھر گھمائے۔ يومٌ اَجْوَل: بہت گرد و غبار والا دن۔

۴۔ الـجَال و الجُول جمع جِوَال و جُوَال و جِوَالَة و جُوَالَة و اجوال: قبر یا کنویں کی دیوار۔ (کہا جاتا ہے: مالهُ جالٌ او جُوْلٌ: اس کا نہ تو کوئی مضبوط ارادہ ہے نہ رائے)، پہاڑ کا پہلو۔ جُولُ القبرِ: قبر کا اردگرد۔ الجَوْل (مص) جمع اَجْوَال: گھوڑوں یا چوپایوں کا گلہ، ریوڑ۔ الجَوَلان (مص): مال کے چھوٹے یا ردی حصے۔ المِجْوَل: پازیب، تعویذ، ہار کے وسط میں چاندی کا ہلال۔ المُتَجِيل: بے وقوف۔

○ جَالَ ـُ جَوْلاً و جَوْلَةً و تَجْوَالاً و جَوَلاناً: ادھر ادھر پھرنا، گھومنا۔ ـــ في: میں آزادی سے حرکت کرنا، (کسی علمی میدان میں) مشغول ہونا، میں لگا رہنا ـــ في/ب: دل میں آنا۔ جال برأسه: کو سوچ میں غرق کرنا، کی توجہ کو منہمک کرنا۔ مايَجُولُ في خاطرِهِ (يا بخاطِرِه)؟ اس کے دل میں یا ذہن میں کیا ہے، وہ کس چیز میں مشغول ہے؟ جَالَ الدمعُ في عينيه: اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ جالت يدهُ في: اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اس نے کسی چیز کا غبن کیا۔ اَجَالَ ہ: کو گردش دینا، چکر دینا۔ اَجَالَ الرایَ في: کا پوری طرح اندازہ کرنا، کو بغور سوچنا، اَجَالَ النظرَ: نظر ادھر ادھر پھرانا، ادھر ادھر دیکھنا۔ تَجَوَّلَ: گھومنا، پھرنا، دورہ کرنا، ادھر ادھر چکر لگانا، گشت کرنا، سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، ادھر ادھر سفر کرنا۔ جَوْلَة جمع جَوْلات: دورہ، گشت، تفریحی سفر، سیر، سیاحت، سمندری سفر، بحری سفر، جہاز کا سفر، جہاز کا دن بھر میں سفر، ہوائی جہاز کی پرواز۔ رن (کھیلوں میں)۔ جَوَّال: گھومنے پھرنے والا، نقل مکانی کرنے والا، سفر کرنے والا، مسافر، سیاح، مٹرگشت کرنے والا، متحرک، حرکی۔ رامٍ جَوَّال جمع رُماة جَوَّالَة: رائفل بردار فوجی۔ جَوَّالَة: گھومنے پھرنے یا سفر کرنے کا عادی، سیلانی، پیادہ رو، راہ گیر، راہی، موٹر سائیکل، تیز رو جنگی جہاز۔ تَجْوَال: نقل وطن کرنا، ادھر ادھر گھومنا، پھرنا، سفر کرنا، خانہ بدوشانہ زندگی، خانہ بدوشی، بادیہ گردی، صحرا نوردی۔ جَوَلَان: ترک وطن، نقل مکانی، گھومنا، پھرنا، سفر کرنا، خانہ بدوشانہ زندگی، خانہ بدوشی، بادیہ گردی، صحرا نوردی۔ جَوَلَانُ اليد: غبن، دست برد، خیانت۔ مَجَال جمع مَجَالات لِ: کے لئے جگہ گنجائش، میدان، خیال و عمل کا میدان، دائرہ، حلقہ، وسعت، حد، دسترس، رسائی، سلسلہ، آزادی سے حرکت کرنے اور ہلنے کی جگہ، کھلی جگہ، ہلنے جلنے کی کافی جگہ۔ ماترَكَ مجالاً للشك: شک کی گنجائش نہ چھوڑنا۔ لا مجالَ للطعن فيه: یہ ناقابل تردید ہے۔ في هذا المجال: اس سلسلہ میں۔ وَدَعَ المجالَ اَمَامَه فسيحًا: کو کھلی چھٹی دے دینا، کارروائی کے تمام مواقع دینا۔ مَجَال حَيَوِيّ: زندہ رہنے کے لئے جگہ۔ مَجَالُ العملِ: میدان عمل، سرگرمیوں کا میدان۔ مجالٌ مَغْنَطِيسِيّ: دلکش میدان، مقناطیسی میدان۔ تَجَوَّل: گھومنا، پھرنا، [illegible] نقل [illegible] ادھر ادھر حرکت کرنا، گشت، سیاحت، سفر، سفر کرنا۔ مَنْع التَجَوُّل: کرفیو curfew۔ بائع جائِل جمع باعَة جائِلون: پھیری والا، خوانچہ والا، ٹھیلے والا، بساطی۔ مُتَجَوِّل: گھومنے پھرنے والا، سیلانی، ترک وطن کرنے والا، مسافر، سیاح، چلتا پھرتا ہوا، خانہ بدوش، سفری، دورہ کرنے والا، متحرک، حرکی۔ وکیلٌ مُتَجَوِّل سفر کرتے ہوئے بیچنے والا۔ بَيَّاعٌ مُتَجَوِّل: پھیری والا، خوانچہ والا، ریڑھی والا، ٹھیلے والا، بساطی، قسیس۔ مُتَجَوِّل: مسافر مبلغ، واعظ۔

○ جَوْلف: گاف کا کھیل۔

جام: جَامَ ـُ جَوْمًا: بھلی یا بری چیز طلب کرنا۔ الجام جمع جامات و اَجْوَام و اَجْؤُوم و جُوم: پیالہ (فارسی لفظ)۔ الجُوَيمَة: چھوٹا پیالہ۔

جان: ۱۔ جَانَ ـُ جَوْنًا: کالا ہونا۔ تَجَوَّنَ بابَ الميت: مردے کا دروازہ سیاہ کرنا۔ الجَوْن جمع جُوْن (ضد): سیاہ، کالا، سیاہی مائل سبز سبزی۔ ـــ من الخيل و الإبل: بہت سیاہ گھوڑا یا اونٹ۔ الجَوْنَة: کوئلہ، ڈوبتے وقت کی سورج کی ٹکیا۔ الجُوْنِيّ جمع جُوْن (ح): قطا پرندہ کی ایک قسم جس کا سینہ اور بازو سیاہ ہوتے ہیں۔ الجَوناء: ہانڈی، سیاہ اونٹنی۔

۲۔ تَجَوَّنَ بابَ العروس: دلہن کے دروازے پر سفیدی کرنا۔ الجَوْن جمع جُون: سفید دن۔ الجَوْناء: سورج۔

۳۔ الجَوْن جمع جُوْن: خالص سرخ۔ الجُوْن جمع اَجْوَان: چھوٹی خلیج۔ الجَوْنَة: تارکول لگا ہوا مٹکا، عطاروں کی چمڑے کی ٹوکری۔

○ جُون جمع اَجْوَان: خلیج، کھاڑی۔

○ جَونَلَة، جَونَلا و جَونِيلَة جمع جَونْلات: سایا، لہنگا۔

جاہ: ۱۔ جَاهَ ـُ جَوْهًا الرجلَ بالمكروه: سے ناپسند طریقے سے پیش آنا۔

۲۔ جَوَّهَ تَجْوِيهًا و اَجَاهَ اِجاهةً ہ: کو صاحب مرتبہ بنانا۔ تَجَوَّهَ: بڑا ہونا، جاہ والا بننا۔ الجاه و الجاهة: قدر و شرف اور بلندیٔ مرتبہ۔

۳۔ الجَوْهَر واحد جَوْهَرة جمع جَوَاهِر: جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اس کے مقابل عَرَض کہلاتا ہے، وہ پتھر جس سے مفید چیز نکالی جائے۔ الجَوْهَرُ الفرد: وہ چیز جو نا قابل تقسیم ہو، ایٹم۔ جَوْهَرُ الشيء: چیز کی طبیعت، اصلیت یا فطرت۔ جوهرُ السيف: تلوار کا جوہر۔ الجَوَاهِرُ العلوية: افلاک، ستارے یا ارواح۔ الجَوْهَرِي:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جوہر کی جانب منسوب، جوہر کا جوہر کے متعلق۔ ضروری ولازم (عَرَضی کا مقابل)، جوہر بنانے اور بیچنے والا۔ ○ تَجَوهَرَ: چیز یا اصل ہوجانا۔ جَوْهَر جمع جَوَاهِر: اصلی اور لازمی طبیعت، جوہر، اصل، روح، کسی چیز کا مافیہ۔ وہ جس میں صفات کا ظہور ہو، مادہ، ہیولی، ایٹم، قیمتی پتھر، نگ، نگینہ، گوہر، ترشا ہوا گوہر (جمع جواہر) جمع جواہرات، زیور، زیورات۔ الـــزَّيْف و الجوهر: نقلی اور اصلی۔ جَوهَرِی: اصل، اہم، خاص اہمیت کا حامل، معقول، ذاتی، اصلی، حقیقی، لاینفک، پیدائشی، جبلی، خلقی، بنیادی، ابتدائی، مرکزی، ضروری، اساسی، خاص، بڑا سب سے اہم، اول، اعلیٰ، سُنار، جوہری۔ جــوهــرجی: سُنار، جوہری۔ مَجَوْهَرَات: جڑاؤ زیور، زیورات، جواہرات، لعل، نگینے، گوہر، قیمتی پتھر۔

جوی: ۱۔ جَوَّى تَجْوِيَةً السقاءَ: مشک میں پیوند لگانا۔ الجُوَّة: مشک کا پیوند۔

۲۔ الجَوّ جمع جِوَاء و اَجْوَاء: آسمان اور زمین کی درمیانی فضا، کشادہ وادی، کشادہ میدان۔ جَوُّ کل شيء: ہر چیز کا اندرونی اور بیرونی حصہ۔ — البیت: گھر کا اندرونی حصہ۔ — الماء: زمین کا وہ قطعہ جو پانی کے لئے کھودا جائے۔ الجُوَّة: پہاڑ وغیرہ کا گڑھا، زمین کا سخت ٹکڑا، لوہے کا زنگ، گندم گوں رنگ۔ الجَوَّانِيّ: جو کی طرف منسوب، گھریلو، اسکا مقابل بَرَّانی ہے۔ الطائرة الجَوْمائية: وہ طیارہ جو ہوا میں بھی اڑتا ہو اور پانی پر بھی تیر سکے۔

جوی: ۱۔ جَوِيَ ـَجَوًى: میں غم یا عشق کے باعث سوزش وجلن کا پیدا ہونا۔ الجَوَى (مص) غم، عشق کے باعث پیدا ہونے والی سوزش وجلن۔ الجَوِی: عاشق۔

۲۔ جَوِيَ ـَجَوًى الشيءَ: کو ناپسند کرنا۔ ـ تِ نفسُه من البلد و عن البلد: کیلئے ملک یا شہر کی آب وہوا ناموافق ہونا۔ اِجْتَوَى البلدَ: کسی شہر میں اقامت کو ناپسند کرنا۔ ـ و اِسْتَجْوَى الطعامَ: کھانے کو ناپسند کرنا۔ الجَوَى (طب): کسی شہر یا ملک کے ناموافق ہونے سے پیدا ہونے والی سینے کی ایک بیماری؛ بیماری کا طول پکڑ جانا، مبتلائے سوزش عشق۔ الـجَوِی (طـب): سوزش عشق کا مریض۔ الجَوِی مؤنث جَوِيَة: تنگ سینے والا۔

۳۔ جَوِيَ ـَجَوًى الماءُ: پانی کا بدبودار ہونا۔ الجَوِی: بدبودار۔ الجِيَّة جمع جِيّ: بدبودار پانی وغیرہ، پانی کا جوہڑ۔

۴۔ جَاوَى مُجَاوَاةً بالابل: اونٹوں کو پانی پر بلانا۔

۵۔ الجِوَاء: کشادہ وادی، زمین کا اندرونی حصہ، چرواہے کا تھیلا، وہ چیز جس پر ہانڈی رکھی جائے۔

○ جَوِيَ ـَجَوًى: عشق یا غم سے جذباتی طور پر جوش میں آنا یا بھڑکنا۔ جَـوًى: عشق، جذبہ، بے حد شوق، سرگرم محبت۔

جاء: ۱۔ جَاءَ يَجِيءُ و يَجُوءُ مَجِيئًا و مَجِيئَةً و جَيْئًا و جَيْئَةً: آنا۔ ـ بہ: کولانا۔ ـ ہ و الیہ: کے پاس آنا۔ جَا آني و جَايَأَني فَجُتُّهُ: اس نے کثرت آمد میں مجھ سے مقابلہ کیا تو میں اس پر غالب آگیا۔ اَجَـاءَ ہ: کولانا، پرآنے کو لازم ٹھہرانا۔ الـجَيْئَـة (مص): ایک بار کا آنا۔ الجِيئَة جمع جِيآت: آنا۔

۲۔ جَاءَ الشيءَ: کوکرنا صفت: جاءٍ مؤنث: جائِيَة۔

۳۔ الجِيْئَة: پیپ اور خون، ٹکڑا جس سے جوتے میں پیوند لگایا جائے۔

○ جَاءَ ـَيَجِيءُ مَجِيئًا ہ/ ہ: کے پاس آنا، ـ ہ تک پہنچنا، ـ ہ کسی جگہ پہنچنا۔ ـ آنا۔ ـ ب کوئی چیز لانا۔ ـ ہ ب: کے پاس کوئی چیز لانا۔ ـ ب کو بنانا، (بچے یا پھل) دینا، کوئی چیز پیش کرنا۔ ـ: کرنا، ـ ہ: کا ارتکاب کرنا۔ ـ في (مضمون وغیرہ) میں واقع ہونا، ذکر کیا جانا، کہا جانا۔ کے بعد (مضارع آئے تو) کچھ کرنے لگنا۔ جاءَ في جريدة الاهرام أن: اخبار الاہرام میں خبر ہے کہ...... جَــاءَ من بـاريس أن: پیرس کی ایک خبر (کہتی) ہے کہ۔ جـاءت نتـائجُه مُـطـابِـقَـةً لِ: اس کے نتائج کے مطابق یا موافق ہوئے۔ جِيْئَة و جَيْئَة: آنا، آمد۔ جيئة و ذَهابٌ: آنا جانا۔ ذهب جيئة و ذهاباً: چہل قدمی کرنا۔ مَجِيء: آنا، آمد۔ الجَائِيات: آنے والی چیزیں۔

جاب: ۱۔ جَابَ ـُجَيْبًا البلادَ: ملک کو طے کرنا۔ ـ القميصَ: قمیص کا گریبان کاٹنا۔ جَيَّبَ القميصَ: قمیص کا گریبان بنانا۔ الـجَيْب جمع جُيُوب من القميص: گریبان، عام لوگوں کے نزدیک، جیب۔ جيب الارض: زمین میں داخل ہونے کی جگہ۔

۲۔ الجَيْب جمع جُيُوب: دل، سینہ۔ کہا جاتا ہے: ناصح الجيب صادق و امين۔

○ جَيْب جمع جُيُوب: سینہ، دل۔ سوراخ، گڑھا، غار، وادی، درہ، کھدائی، جیب، بٹوہ۔ الجيب الخاص: صرف، خاص، خاصہ۔ تمام الجيب و جيب التمام: (ایک زاویہ میں) ایک زاویہ قائمہ میں اس زاویہ کی ساتھ کی نسبتاً چھوٹی طرف [illegible] بڑی طرف کی نسبت یا [illegible] الجيب جيب [illegible] گھڑی۔ مصروف الجيب: جیب خرچ۔ الجيوب الانفية: ناک کی نالیاں۔ جُيُوب المُقَاوَمَة: گھرے ہوئے علاقہ میں متعین مزاحمتی فوجیں۔ جيبي: جیب کا، جیب کے متعلق۔ جيب و سيارة جيب: جیپ (jeep)

○ جيت: چھینٹ (کپڑا) چھپا ہوا کپڑا۔

جاح: جَاحَ يَجِيحُ جَيْحًا و جَائِحَةً اللهُ القومَ: اللہ تعالیٰ کا قوم کو جڑ سے اکھیڑنا، ہلاک کرنا۔

جاخ: جَاخَ يَجِيخُ جَيْخًا السيلُ الوادیَ: سیلاب کا وادی کے کناروں کو بہالیجانا۔

جاد: جَادَ و جَيِدَ يَجَادُ جَيَدًا: لمبی اور خوبصورت گردن والا ہونا صفت: اَجْيَد مؤنث جَيْدَاء و جَيْدَانَة جمع جُوْد۔ الجِيد جمع اَجْيَاد و جُيُود: گردن اور کبھی جِید گردن کی صفت بن کر آتا ہے۔ ایسی صورت میں کہا جاتا ہے: عُـنُـقٌ اَجْيَـد: لمبی اور خوبصورت گردن۔

جير: ۱۔ جَيَّـرَ الحوضَ: حوض کو گچ کرنا، چونہ کی استرکاری کرنا۔ الجِير (ك) گچ، چونہ، سیمنٹ۔ الجَيَّار (ك): بے بجھا چونہ۔ ـ و الجائر: غصہ یا بھوک کے سبب سینہ کی سوزش۔ مُجَيَّر: گچ کیا ہوا۔ حوض مُجَيَّر: گچ کیا ہوا حوض۔

۲۔ جَيْرِ حرف جواب۔ نعم (ہاں) کے معنی میں۔

۳۔ جَيَّرَ السندَ (ت): پرونوٹ وغیرہ کی پشت پر دستخط کرنا۔ الجيرو ظہری تصدیق۔

۴۔ مُجَيَّر گہرا کیا ہوا، کھودا ہوا۔

○ جَيْرِ: یقیناً، واقعی۔ جِيْر: چونہ۔ جيري: چونہ کا، چونے کے متعلق۔ جَيَّارة: چونے کی بھٹی۔ جَيَّر: ظہری تصدیق کرنا۔ جيرو ظہری تصدیق۔

○ جِيـزَة: شمالی مصر کے ایک شہر کا نام، مصری کپاس کی ایک قسم۔

جاش: ۱۔ جَاشَ ـِجَيْشًا و جَيَشَانًا و جُيُوشًا ت النفسُ: جی متلانا۔ ـ الصدرُ: سینہ یا دل کا مارے غضب کے ابل پڑنا، جوش میں آنا۔ ـ ت القِدرُ: ہانڈی کا ابلنا۔ ـ ت الحربُ بينهم: کے درمیان لڑائی کا تیز ہوجانا۔ ـ البحرُ: سمندر کا جوش میں آنا۔ ـ الوادي: وادی کا موج مارنا۔ ـ ت العينُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ ـ الميزابُ: پرنالہ کا خوب اچھی طرح بہہ پڑنا۔ ـ ت نفسُ الجَبانِ: بزدل کا ڈر کر بھاگنے کا ارادہ کرنا۔ تَجَيَّشَ تِ نفسُه: کا جی متلانا۔ الجائِشَة: نفس۔ الجَيْشَة جمع جَيْشات: جاش کا اسم مرۃ۔ الجَيَّاش: متحرک، مضطرب۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔جَیَّشَ الجیوشَ: فوجوں کوجمع کرنا۔تَجَیَّشَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔اِستَجاشَ الجیشَ: لشکر کوجمع کرنا۔ـــــ الامیرَ: حاکم سے لشکر اور کمک مانگنا۔ـــــ القومَ: لوگوں کو مدد دینے پر برانگیختہ کرنا۔

الجیش جمع جُیُوش: فوج، لشکر۔

۳۔الجِیش (ن): ایک قسم کی لمبی نبات۔

○ جیش: جَاشَ ـ جَیَشَانًا: جوش میں آنا، بھڑکنا، مشتعل ہونا، برانگیختہ ہونا، ہیجاں میں آنا، بگڑنا، آگ بگولہ ہونا، طیش میں آنا، طوفان برپا کرنا، سخت خفا ہونا، آفت مچادینا، کھولنا، جوش کھانا، گرم ہونا، غصے سے پیچ و تاب کھانا۔جَیَّشَ: فوج بھرتی کرنا، جمع کرنا، فوج کو حرکت میں لانا، فوج کو لڑائی کے لئے تیار کرنا، جنگ کے لئے فوج اکٹھی کرنا۔اِستَجاشَ ہ: (فوج) جمع کرنا، اکٹھا کرنا، (فوج) کو حرکت میں لانا، لڑائی کے لئے تیار کرنا۔ـــــ انصارًا: پیروکاروں کو حرکت میں لانا، اکٹھا کرنا۔جیش جمع جُیُوش: بری فوج، فوجی دستے، مسلح افواج۔جیش الاحتلال: قبضہ کرنے والی فوج۔جیشٌ اِحتیاطِی: ریزرو فوج، فاضل فوج۔جیشٌ مرابطٌ: علاقائی فوج، وطنی فوج، داخلی فوج۔جیشُ الإنقاذ: کمکی فوج۔جیشُ المَسَاء: شام کا دھندلکا، جھٹپٹا۔جَیَّاش: مضطرب، ہیجان میں، ہیجان زدہ، جذباتی، جوشیلا، برانگیختہ، مشتعل، جوش میں آیا ہوا، کھولتا ہوا، گرم، غصہ سے پیچ و تاب کھایا ہوا، پرجوش، ابلنے والا، آپے سے باہر ہونے والا، جوش یا ابال کی حالت میں، لطف سے جوش میں آیا ہوا، خوشی سے ہیجاں میں آیا ہوا۔جَیَشَان: اشتعال، برانگیختگی، جوش، ہیجان، خیالات کا الجھاؤ، ہلچل، اضطراب، پریشانی، شورش، طیش۔

جاض: ا۔جَاضَ ـ جَیضًا و جَیَّضَ تجییضًا عنہ: سے منحرف ہونا، الگ ہوجانا، بچنا۔الجَیضَة: دائیں بائیں جھکاؤ۔الجِیَض و الجِیَّضی: متکبرانہ چال۔

۲۔جَایَضَ ہ: سے شان وشوکت میں مقابلہ کرنا۔

جاظ: جَاظَ ـ جَیَظَانًا: تکبر سے چلنا، صفت: جَیَّاظ۔ـ بِحَمْلِہ: بھاری بوجھ اٹھا کر چلنا۔

جاف: جَافَ ـ جَیفًا و جَیَّفَ و تَجَیَّفَ و اجْتَافَ و اِنْجَافَت الجُثَّة: لاش کا سڑ جانا، بدبودار ہونا۔

الجِیفَة جمع جِیَف و أَجْیَاف: مردہ کی گلی سڑی اور بدبودار لاش۔

○ جِیکی: جمہوریہ زچ کا باشندہ زچ۔اس کے اطراف میں پولینڈ، جرمنی، آسٹریا اور سلوواکیا کے ممالک واقع ہیں۔

جیل: الجِیل جمع اَجْیَال و جِیلان: لوگوں کی ایک صنف، ایک زمانہ کے لوگ، صدی۔

○ جِیل جمع اَجْیَال: لوگ، قوم، قبیلہ، نسل، پود، نژاد، صدی، دور، زمانہ، سن۔

جِیلاتی: آئس کریم۔

جیم: الجیم: حروف تہجی کا پانچواں لفظ (مذکر و مؤنث) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

جیہ: الجَیْهَل و الجَیْهَلَة: انگارے ہلانے کی لکڑی، کریلنی۔صَفَاةٌ جَیْهَلٌ: بڑا پتھر۔

جیو: ا۔الجِیودیزیة (ہ): زمین کی مساحت کا علم۔النقطة الجیودیزیة: وہ نقطہ جس سے ملکوں کی حدود کا قیاس کیا جاتا ہے، (یونانی لفظ)۔

۲۔الجِیُولوجیا (ط ا): ارضی طبقوں اور ان کی قدرتی ہیئت کا علم (یونانی لفظ)۔

○ جِیُوغرَافِیا: جغرافیہ۔الجیوغرافیا البَشَرِیَّة: بشریاتی جغرافیہ arthropo geography۔

○ جیوفیزیا: geophysics، زمین کی طبعی سرگرمیوں یعنی زمین کے کرہ ہوائی، آب و ہوا اور سمندروں کا علمی مطالعہ۔جیوفیزیانی: جیوفیزیا کا یا کے متعلق۔السنة الجیوفیزیانیة: جیوفزیائی سال۔

جیوفیزیقی: بمعنی جیوفیزیائی۔

○ جِیُولَوجِیا: علم طبقات الارض، ارضیات geology۔جیولوجی: ارضیاتی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ح

ح: تلفظ حا۔ حروف تہجی کا چھٹا حرف اور حروف ابجد میں آٹھ کا عدد ہے۔

حبّ: ۱۔ حَبَّ ـِ حُبًّا و حِبًّاہ: سے محبت کرنا۔ ـ الشیءَ: سے رغبت کرنا۔ ـ ـُ و حَبُبَ ـُ الیہ: کا محبوب ہونا، حَبَّبَ ہ اِلی: کو کا محبوب بنانا، پیارا بنانا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ حَبَّبَنی ایاہ: اس نے مجھ کو اس کا محبوب بنایا۔ حَابَّ مُحَابَّۃً و حِبابًاہ: باہم محبت و الفت کرنا، باہم دوستی کا اظہار کرنا۔ اَحَبَّ ہ: سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ حبّ سے زیادہ مستعمل ہے۔ صفت فاعلی۔ مُحِبّ: صفت مفعولی: مَحْبُوب و مُحَبّ، تَحَبَّبَ الیہ: سے محبت دوستی کا اظہار کرنا تَحَابَّ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اِسْتَحَبَّ ہ: سے محبت کرنا، کو پسند کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِسْتَحَبَّ الکفر عَلَی الایمان: اس نے کفر کو ایمان پر فضیلت دی۔ الحِبّ جمع اَحْبَاب و حِبَّان و حَبَبَۃ و حُبّ و حُبُوب: عاشق، محبوب، الحُبَّۃ جمع حُبَب: محبوب، محبوبہ، کہا جاتا ہے: ھذا حُبَّتُك: یہ وہ چیز ہے جس کا مل جانا آپ کو پسند ہے۔ اور کہا جاتا ہے۔ نعم وحُبَّۃً و کرامۃً: جیسے کہا جاتا ہے حُبًّا و کرامۃً: ہاں محبت اور احترام کی وجہ سے، بڑی خوشی سے۔ حَبَّۃُ القلب: دل کا دانہ یا روح۔ کہا جاتا ہے: اَصَابَتْ حَبَّۃَ قلبہ: اس کی محبت نے اُسے والا و شیدا کر دیا، فریفتہ کر دیا۔ المُحِبّ (فا): کہا جاتا ہے: امراۃٌ مُحِبَّۃٌ لزوجھا و مُحِبٌّ لہ: اپنے خاوند سے محبت کرنے والی عورت۔ المَحَبَّۃ: مرغوب شے کی طرف طبیعت کا میلان۔ الحُبَاب: محبت، دوستی، محبوب، انتہائی محبت، دوستی یا کوشش کہا جاتا ہے: حَبَابُك اَن تفعلَ کذا: تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ ایسا کرو۔

الحَبِیب جمع اَحِبَّۃ و اِحِبَّاء و اَحْبَاب: محبّ، محبوب، آپ کہتے ہیں: اَنَا حبیبُکُمْ: میں تمہارا محب ہوں۔ آپ کہتے ہیں: ھذا حبیبی یہ میرا محبوب ہے الحَبَّاب: حَبَّ کا اسم مبالغہ۔

۲۔ حَبَّبَ و اَحَبَّ الزرعُ: کھیتی کا دانہ دار ہونا۔ الحَبّ: جمع حُبُوب و حُبَّان واحد حَبَّۃ جمع حَبَّات: دانہ، (طب) (دوا) کی گولی۔ حَبُّ الغمام: ژالہ، اولہ۔ الحَبَّۃُ السوداء: (ن) کلونجی۔ ـ الخَضْرَاء (ن) گندہ بروزہ کے درخت کا پھل۔ الحُبَّۃ جمع حُبَب (ن) انگور وغیرہ کا بیج۔

۳۔ حَبَّبَ القِربَۃَ: مشک بھرنا۔ تَحَبَّبَ من الشراب: بڑے مٹکے کی طرح پھول جانا۔ الحُبّ جمع حِبَاب و حِبَبَۃ و اَحْبَاب: بڑا گھڑا یا مٹکا۔ الحَبَّاب: کمہار، گھڑے مٹکے بنانے والا۔

۴۔ الحَبَب: دانتوں کی برابر قطار۔ ـ و الحَبَاب: بلبلہ (پانی یا شراب پر ابھرنے والا)۔ حَبَبُ الماء او الرمل و حِبَبُہ: پانی یا ریت کا بڑا حصہ۔ الحَبَّۃ: دو جَو کے برابر ایک وزن کا نام، دینار کا سولہواں حصہ۔ الحُبَاب (ح): سانپ اُمّ حُبَاب: دنیا۔ الحُبَاب جمع حُبَاب (ح) ایک سیاہ آبی کیڑا۔

۵۔ حَبْحَبَ حَبْحَبَۃً الماءُ: پانی کا تھوڑا بہنا۔

۶۔ حَبْحَبَ حَبْحَبَۃً النارُ: آگ کا بھڑکنا الحُبَاحِب (ح): جگنو، جگنو کی دم میں چمکتی ہوئی روشنی نارُ الحُبَاحِب: ضعف و کمزوری کے معنی میں بطور مثل بیان کیا جاتا ہے، گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی چنگاری جب وہ کسی پتھریلی زمین پر دوڑتا ہے۔

۷۔ الحَبْحَاب جمع حَبَاحِب پستہ قد شخص، بدشکل، بدخلق، المُحَبْحِب بری غذا کھانے والا۔

○ حَبَّبَ اِلی ہ/ ھ: میں کسی شخص یا چیز کی محبت یا پسند کے جذبات ابھارنا، کی سے محبت کرنے یا پسند کرنے کا باعث بننا۔ ـ ہ اِلی: کو کی نظر میں مقبول، پیارا یا عزیز بنانا، کو کے لئے محبوب، قابل محبت یا دلکش یا دلربا بنانا، کو کیلئے قابل قبول یا خوشگوار یا پسندیدہ بنانا، کی سے سفارش کرنا، کا کو مشورہ دینا، کا کو خیال دلانا، کی کو تجویز پیش کرنا۔ اَحَبَّ ہ/ ھ: سے محبت کرنا کو پسند کرنا۔ (حَبَّ ـِ حُبًّا و مَحَبَّۃً ہ / ھ کا بھی یہی معنی ہے) اَحَبَّ اَن: کو کرنے کی خواہش کرنا، کو کرنا چاہنا، کو کرنا پسند کرنا، اُحِبُّ اَن: مجھے چاہئے کہ۔ اَحِبُّ لہ اَن: کے بارے میں پسند کرتا ہوں کہ وہ...... لا یحبُّ الخیر لہُ: وہ نہیں چاہتا کہ وہ خوش ہو، وہ اس کی ہر چیز ناپسند کرتا ہے۔ تَحَبَّبَ اِلی: سے محبت کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو کا محبوب بنانا، اپنے آپ کو کے نزدیک پسندیدہ بنانا، کے دل میں گھر کرنا، کا مورد عنایات ہونا، کسی عورت سے عشق بازی کرنا، اس کے کرم کا خواستگار ہونا، سے شادی کی نیت سے محبت کرنا۔ تَحَابَّ: ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اِسْتَحَبَّ ہ: کو پسند کرنا، کو مرغوب، پسندیدہ یا مناسب سمجھنا، قابل تعریف یا قابل سفارش سمجھنا۔ حُبّ: محبت، لگاؤ، الفت، چاہ، حُبُّ الذات: انانیت، حب ذات، حُبُّ الاستطلاع: تجسس، اشتیاق، لگن (جاننے کی) حُبُّ الوَطَن: حب وطن، حب الوطنی۔ حُبًّا لِ: سے محبت کی وجہ سے، سے لگاؤ کی خاطر، سے دوستی کے باعث حُبًّا فی: کی خواہش میں۔ حُبِّی: دوستانہ، محبت کرنے والا حُبِّیًّا: دوستانہ انداز میں، دوستانہ طور پر، آشتی سے منصفانہ یا جائز طریقے سے۔ حِبّ جمع اَحْبَاب: محبوب، پیارا، عزیز

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ترین، پسندیدہ۔صِحاب: مقصد، مدعا۔حَبیب جمع اَحِبّاء و اَحِبّۃ و اَحْبَاب: محبوب، عاشق، معشوق، عزیز، دوست ــ الیٰ: کا محبوب، عزیز، مقبول۔الاحباب: محبوب لوگ، عزیز لوگ، اعزہ۔حَبیبَۃ جمع حَبَائِب: محبوبہ، معشوقہ۔اَحَبُّ: زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ، زیادہ مرغوب۔ــ الیٰ: کے لئے قابل ترجیح۔

حَبَّذَ: کتنا عمدہ، کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا اعلیٰ، کتنا شاندار۔کتنا بے عیب۔حَبَّذَا لو: کتنا عمدہ ہوا گر۔حَبَّذَ الحالُ لَو فَعَلَ: اگر وہ ایسا کرے تو عمدہ ہوگا، یا اچھا ہوگا۔یا حَبَّذَا الحالُ: یہ تو بہت حیرت انگیز ہے۔مَحَبَّۃ: محبت، لگاؤ، الفت۔مَحَبَّۃُ الوطن: حب وطن، حب الوطنی۔تَحَبُّب: شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی میں راز و نیاز کی باتیں۔شادی خواہ معاشقہ یعنی شادی کرنے کی غرض سے عشق کرنا۔تَحَابُب: باہمی محبت، ہم آہنگی، مطابقت۔مَحْبُوب: محبوب، پیارا، عزیز، قابل محبت قابل خواہش، مقبول، ہر دل عزیز، عاشق، جمع مَحَابِیب: سونے کا ٹکڑا، ایک چھوٹی چمکدار گول ٹکیا جو کپڑے پر آرائش کے طور پر سی کر لگائی جاتی تھی (عثمانی دور میں)۔مَحْبُوبَۃ: محبوبہ۔مُحَبَّب الیٰ: کے لئے خوشگوار، مرغوب، پسندیدہ، دل پسند، خاطر خواہ، قابل محبت، عزیز، دل پذیر، موافق، سہانا، مُحَبَّب: عمدہ، مرغوب، پسندیدہ، پسند خاطر۔مُحِبّ جمع مُحِبُّون: محبت کرنے والا، عاشق، شوقین، شائق، کھیل وغیرہ کا رسیا، دوست۔مُحِبٌّ للناس: انسان دوستی کا شفقانہ، خوش اخلاق، خلیق، خندہ جبین۔مُحِبُّنَا العزیز: ہمارا عزیز دوست۔مُحِبُّو الآثار: اثریات کے قتیل۔مُحِبٌّ لِذَاتِہ: خودغرض۔مُتَحَابٌّ: ایک دوسرے سے محبت کرنے والا۔ہم آہنگ۔مُسْتَحَبّ: قابل تعریف، قابل سفارش، خاطر خواہ پسندیدہ (ایسا عمل جسے نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہ ملے لیکن جس کا کرنے پر صلہ دیا جائے)۔بہت پسندیدہ، ہر دلعزیز، مقبول، عام پسند (کیا ہوا)۔

حَبَّ: پودے کا دانہ دار ہونا، انگور بندھنا ـــہ: کو دانہ دار کرنا۔اَحَبَّ: دانہ دار ہونا۔حَبّ (واحد حَبَّۃ): بیج، تخم، اناج، غلہ، دانہ، گودا، مغز، گری، بیج کا حصہ، (دوائی کی) گولیاں، بغیر گٹھلی کے پھل، کوز، مہاسے، مسے، آبلے، چھالے، پھنسیاں۔حَبَّۃ جمع حَبَّات: دیکھو حبّ۔حَبَّات جمع حبات: منکے، دانے، (تسبیح کے) حَبَّۃُ العین: آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ کی پتلی۔حَبَّۃُ القلب: عزیز ترین (شخص) محبوب حَبَب: چھالہ، آبلہ۔حُبَیْبَۃ جمع حُبَیْبَات: چھوٹا دانہ، چھوٹی گری، چھوٹا مہاسا یا کیل، یا چھالہ یا آبلہ۔حُبَیْبِیّ: دانے دار، دانے کی شکل کا انگور بندھا۔الرَمَدُ الحُبَیْبِیّ: آنکھ کی ایک بیماری جس میں پپوٹے کے اندر دانے نکل آتے ہیں۔حَبْحَب: تربوز حَبَاحِب: جگنو، کرمک شب تاب۔حَبَّذَہ: کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کے متعلق اچھی رائے رکھنا، کی تعریف کرنا۔ـــہ/ھ: کو باآواز تحسین و آفرین کہنا، واہ واہ کہنا، کو خوش آمدید کہنا، مرحبا کہنا، کیلئے نعرہ ہائے شادمانی بلند کرنا، کو شاباش دینا یا کے لئے شاباش کے نعرے لگانا، کے لئے نعرہ ہائے تحسین لگانا۔تَحْبِیذ: پسند، پسندیدگی، پرجوش تائید، بلند تائید، واہ واہ، باآواز، تحسین و آفرین، تحسین و آفرین کہنا۔

حبج: حَبَجَ ـِ حَبْجًا ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا ـــ و اَحْبَجَ: نزدیک ہونا، ظاہر ہونا۔ـــ الامرُ: اچانک ظاہر ہونا۔حَبِجَ ـَ حَبَجًا و ــُـ حُبُجًا: متورم اور پھولے ہوئے پیٹ والا ہونا۔صفت: حَبِج۔الحَبَج (مص): سدہ کی شکل کی پیٹ کی مینگنیاں۔

حبذ: حَبَّذَہ: کسی سے حبذا کہنا۔حَبَّذَا: یہ کلمہ حب اور ذا سے مرکب ہے۔مدح کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اپنی حالت نہیں بدلتا۔حَبَّ: فعل ماضی ذا اسم اشارہ اس کا فاعل اور جملہ خبر مقدم ہے۔اسم یا ضمیر جو اس کے بعد ہو مبتدا موخر ہوتی ہے۔

حبر: ۱۔حَبَرَ ـُ حَبْرًا الشیءَ: کو زینت دینا، آراستہ کرنا، منقش کرنا۔حَبَّرَ الکلامَ او الخطَّ او الشعرَ: کلام، خط یا شعر کو عمدہ بنانا۔تَحَبَّرَ: مزین ہونا، عمدہ ہونا۔الحَبْر جمع اَحْبَار و حُبُور: نیک عالم، دینی پیشوا، یہودیوں کے نزدیک کاہنوں کا سردار۔الحَبْرُ الأعْظَم: پاپائے اعظم، زمین پر حضرت مسیح کا خلیفہ۔الحِبر جمع حُبُور: حسن و جمال (کہا جاتا ہے۔فلانٌ حسنُ الحِبرِ والسِبرِ: فلاں شخص خوبصورت اور خوش ہیئت و خوش شکل ہے۔فلانٌ لیس لہ حِبرٌ: فلاں شخص کا کوئی مثل و نظیر نہیں۔ذَھَبَ حِبرُہ و سِبرُہ: اس کا حسن اور خوش روئی جاتی رہی) نقش و نگار۔ـــ جمع اَحبار و حُبُور: بمعنی الحَبر۔الحَبَر جمع حِبَر و حُبَر: منقش چادر۔ـــ من الثیاب: نیا و نرم کپڑا۔حِبیر: حُبَر کی جمع حُبُر ہے۔الحَبِرَۃ و الحِبَرَۃ جمع حَبَرات و حِبَرات و حِبَر: ایک قسم کی یمنی چادر، سیاہ رنگ کی چادر جو پردہ دار خواتین گھر سے باہر جاتے ہوئے اوڑھتی ہیں۔الحُبُورَۃ: امامت۔

۲۔حَبَرَ ـُ حَبْرَۃً و اَحْبَرَہ: کو خوش و مسرور کرنا۔حَبِرَ ـَ حُبُورًا و حَبَرًا: خوش ہونا۔الحَبْر والحِبر جمع اَحْبَار و حُبُور: خوشی، نعمت۔الحَبْرَۃ: خوشی، نعمت، عمدہ راگ۔

۳۔حَبِرَ ـَ حَبَرًا تِ الاسنانُ: دانتوں کا پیلا ہونا۔الحِبْر جمع حُبُور: دانتوں کی زردی۔الحُبْرَۃ (بتثلیث الحاء): دانتوں کی زردی۔

۴۔حَبِرَ ـَ حَبَرًا الجرحُ: زخم کا اچھا ہونا اور کچھ اثر باقی رہنا۔حُبِّرَ: پسوؤں کے کاٹنے کے نشانوں والا ہونا۔أَحْبَرَتِ الضربۃُ جلدَہ و بجلدہ: چوٹ کا کی جلد پر نشان چھوڑنا۔الحَبَر (مص): نشان، اثر۔الحَبَار جمع حَبَارات و الحِبْرُ جمع حُبُور: اثر۔کہا جاتا ہے بجلدہ حَبَارُ الضرب و فی یدہ حَبَارُ العمل اس کی جلد پر چوٹ کا اور اس کے ہاتھ میں کام کا اثر و نشان ہے۔

۵۔حَبِرَ ـَ حَبَرًا و اَحْبَرَتِ الارضُ: زمین کا خوب پیداوار اگانا، خوب سرسبز ہونا۔تَحَبَّرَ السحابُ: ابر کا ظاہر ہونا اور پھیل جانا۔

۶۔حَبَّرَ الدواۃَ: دوات میں روشنائی ڈالنا۔الحِبْر جمع حُبُور روشنائی۔قلمُ الحِبر: فاؤنٹین پن۔المِحْبَرَۃ و المَحْبَرَۃ و المَحْبُرَۃ جمع مَحابر: دوات۔

۷۔الحُبْرَۃ: درخت کی گانٹھ۔الحَبَّار: ایک قسم کا جانور جس میں سے سیاہ رنگ کا سائل نکلتا ہے جو رنگنے کے کام آتا ہے۔الحُبَارَی جمع حُبَارَیَات (ح): سرخاب۔أَبْلَہُ مِن الحُبَارَی: سرخاب سے زیادہ کند ذہن۔یہ ضرب المثل اس لئے بولی جاتی ہے کہ جب سرخاب اپنا گھونسلا بدلتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے اور دوسرے پرندوں کے انڈے سیتا ہے۔اس کی کئی قسمیں ہیں۔الحُبْرُور و الحِبْرِیر جمع حَبَارِیر (ح): سرخاب کا چوزہ۔

۸۔حَبَرَ ـُ حَبْرًا ہ: کو خوش کرنا، کو مسرور، شاد، محظوظ کرنا، کو باغ باغ کرنا۔حَبِرَ ـَ حُبُورًا: خوش ہونا، مسرور ہونا۔حَبَّرَہ: کو سجانا، زینت دینا، تزئین کرنا، کو شاندار بنانا، خالص اور صاف بنانا لو ماہرانہ بنانا۔ـــہ: کو خوبصورت انداز میں ترتیب دینا، سنوارنا، لکھنا، کہنا۔حِبر: روشنائی۔اُمُّ الحِبر: وشاخہ مچھلی، چارہ کا کیڑا۔حِبرٌ علی وَرَق: (معاہدہ اقرار نامہ) صرف کاغذ پر سیاہی، بے نتیجہ۔حَبْر و حِبر جمع احبار: غیر مسلم مذہبی شخص جس کی رائے سند سمجھی جاتی ہے۔عالم فاضل شخص، یہودی قانون دان۔حِبر۔اسقف۔ربّی۔الحَبْرُ الأعظم: پاپائے اعظم، سِفرُ الأحبار: عہد نامہ قدیم میں تیسری کتاب جو کہانت کے متعلق ہے۔حَبْرِی: پاپائے اعظم کے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

شایان شان۔ قُدّاس حبری: پاپائے اعظم کی دعا جو عشائے ربانی میں پڑھی جاتی ہے۔ حَبْرِیۃ اسقف کا منصب یا اس کی عظمت۔ پادری کا عہدہ یا حلقہ اقتدار، پاپائے اعظم کا عہدہ، اسقف اعظم کا عہد حکومت۔ حَبَرَۃ و حِبَرَۃ جمع حبرات ریشمی چادر (جو عورتیں باہر جانے کیلئے پہنتی ہیں)۔ حَبَار و حِبَار جمع حبارات: نشان، چوٹ کا نشان، گوٹ، بیل، حاشیہ، حُبُور: خوشی، شادمانی، حُبَارَیٰ جمع حُبَاریات شتر مرغ کی قسم کا ایک پرندہ، تغدار، کلڈ وگ۔ یَحْبُور: شترمرغ کی قسم کے پرندے کا چوزہ۔ مِحْبَرَۃ و مَحْبَرَۃ جمع مَحابر دوات۔

حبس ا۔ حَبَسَ ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًاہ عن الشیٔ کو سے منع کرنا۔ تَحَبَّس و اِحْتَبَسَ فی الکلام گفتگو میں رک جانا۔ الحَبْس جمع اَحْبَاس پانی کو بہنے سے روکنے کی چیز۔ الحُبْسَۃ گفتگو میں رکاوٹ ودشواری۔ الحُبَّس: واحد حابِس و الحُبُس واحد حَبُوس او حَبِیس پیادے۔

۲۔ حَبَسَ ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًاہ: کو قید کرنا۔ حَابَسَ مُحَابَسَۃً ہ: کو روکے رکھنا، حراست میں رکھنا، اِحْتَبَسَ ہ: کو روک رکھنا، کا رکنا، لازم ومتعدی۔ ــ الرجلَ: کو روکنا، قید کرنا، الحَبْس جمع حُبُوس والمَحْبِس جمع مَحَابِس قید خانہ، جیل۔ الحَبِیس جمع حُبُس قیدی۔ المَحْبَسَۃ جمع مَحَابِس قید خانہ۔ جیل۔

۳۔ حَبَسَ ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًا المالَ علی کذا کے لئے مال وقف کردینا۔ اَحْبَسَ و حَبَّسَ المالَ مال کو اللہ کے راستہ میں وقف کردینا۔ تَحَبَّس و اِحْتَبَسَ علی کذا اپنے آپ کو تک محدود رکھنا۔ الحُبَّس واحد حابِس و الحُبُس واحد حَبُوس او حَبِیس ہر وقف شدہ شے۔ خواہ جانور ہو یا زمین ہو یا مکان ہو۔ الحَابِسۃ حابِس کا مونث: شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر پر باندھ کر رکھے جانے والے اونٹ۔ الحَبِیس جمع حُبُس اللہ کی محبت کی خواہش سے دنیا سے کنارہ کش ہو کر گوشہ عزلت اختیار کرنے والا۔ جمع حُبُس من الخیل اللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقف شدہ گھوڑا جس پر جہاد میں سواری کی جاتی ہے۔ الحَبَائِس مفرد حَبِیس کار خیر میں وقف کی ہوئی چیزیں۔ المَحْبَس جمع مَحَابِس قید خانہ، عابدوں زاہدوں کا گوشہ عزلت۔

۴۔ حَبَس ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًا الشیٔ کی پوری طرح حفاظت کرنا۔

۵۔ حَبَسَ ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًا الشیٔ بالشیٔ: کو سے چھپانا یا سے گھیرنا۔ الحِبْس جمع اَحْبَاس بچھونے کے اوپر کا پردہ۔

○ حَبَس ـِ حَبسًا ہ/ ہ کو روکنا، روک رکھنا، پابند کرنا۔ قید کرنا ــ ہ من کو سے روکنا منع کرنا، روکے رکھنا۔ (آنسو اور ہنسی وغیرہ کو روکنا یا روکے رکھنا بھی)۔ ــ عن ہ کسی سے کوئی چیز روکے رکھنا۔ ــ ہ: کو حراست میں رکھنا، نظر بند کرنا، قید کرنا، کو گرفتار کرنا، جیل میں ڈالنا۔ ــ ہ علی کو کیلئے رکھنا، روکے رکھنا ایک طرف رکھنا، علیحدہ رکھنا۔ ــ سرمایہ روک لینا، کو ناقابل انتقال طور پر لگانا۔ حَبَسَ نفسَہُ علی اپنے آپ کو کے لئے مکمل طور پر وقف کرلینا حبس یدَہ عن کے اقتدار کے ماتحت کسی چیز کو نکال لینا۔ حَبَسَ علیہ انفاسہ کے دم سادھ لینے کا باعث ہونا، کا دم نکالنا، حُبِسَ مع الشُغل اسے قید بامشقت دی گئی۔ حَبَّس ہ علی مالی وسائل کسی نیک مقصد کے لئے ناقابل انتقال طور پر روک لینا۔ کے استفادہ کے لئے مذہبی وصیت کرنا۔ اِنحبس رکنا، تھمنا، ذرا سی دیر کو رکنا، منقطع ہونا، قطع کلامی کیا جانا۔ اِحْتَبَس ہ/ ہ کو: روکنا، پابند کرنا، حراست میں رکھنا، بٹھائے رکھنا، کو نظر بند کرنا، قید کرنا، کو روکے رکھنا، رہنے دینا، رکھنا، کچل دینا، دبا دینا، ختم کرنا، ضبط کرنا، روکنا پوشیدہ رکھنا۔ نظر بند ہونا، قید ہونا، روکا جانا، رکنا، آواز کا لڑکھڑانا، رکنا، سانس رکنا، حَبْس روک نار کاوٹ، روک تھام، انسداد، خلوت گزینی، کنارہ کشی، قید وبند، گوشہ نشینی، اسیری، روک، آڑ، اٹکاؤ، پشتہ، بند، حفاظت، تحویل، حراست، روکے رکھنا، گرفتاری، جیل جمع حُبُوس جیل، قید خانہ۔ حبسٌ احتیاطی نظر بندی قید، حراست (تحقیقات کے دوران) حبس انفرادی قید تنہائی، حبس شدید، قید بامشقت حِبْس جمع اَحباس بند، پشتہ۔ حُبُس و حُبْس جمع اَحْبَاس ناقابل انتقال جائیداد جس کی آمدنی نیک مقاصد کے لئے وقف ہو۔ مذہبی وصیت کے ذریعے پہنچنے والا مال، کان حَبْسًا علی بمعنی کان وقفا علی کا بل طور پر کسی کا متوسل، دست نگر۔ حُبْسَۃ گفتگو نقص، بولنے میں زبان کی رکاوٹ حَبِیس کا ہوا، پابند، حوالات میں بند۔ گوشہ نشین، عزلت گزین، اکھڑی ہوئی (سانس) گلے میں پھنسنے والی (آواز) جمع حُبَسا: تارک الدنیا، زاہد، گوشہ نشین۔ مَحْبَس و مَحْبِس جمع مَحابس جگہ جہاں کوئی چیز روکی گئی ہو۔ جیل قید خانہ قید کی کوٹھری [illegible]

آلہ۔ مَحْبَسَۃ حجرہ، کٹیا، خانقاہ، گوشہ تنہائی، احتباسُ البول پیشاب کی بندش۔ مَحبُوس بیرونی دنیا سے کٹا ہوا۔ تنہا کیا ہوا۔ کنارہ کش، گوشہ نشین، قید کیا ہوا، حوالات میں رکھا ہوا، قیدی، اسیر، لگایا ہوا روپیہ جو استعمال کے لئے آسانی سے دستیاب نہ ہو۔ جائیداد وغیرہ جس کے استعمال اور فروخت کو روکنے کے لئے کچھ شرائط ہوں جمع مَحَابِیس قیدی، قیدی کا ساتھی، سزا بھگتنے والا مجرم۔ المُحَبَّس علیہ نا قابل انتقال جائیداد کا وظیفہ خوار۔ مُنحَبِس الگ تھلگ، گوشہ نشین، عزلت گزین۔ (معاشرہ وغیرہ سے) کٹا ہوا۔

حبش ا۔ حَبَش ـُ حَبْشًا و حُبَاشَۃً و حَبَّشَ و اِحْتَبَشَ الشیٔ کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، تَحَبَّش القوم لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ الحُبَاشَۃ جمع حُبَاشات والأُحْبُوش و الأُحْبُوشَۃ جمع اَحَابِیش لوگوں کی جماعت جو کسی ایک قبیلہ سے نہ ہوں۔

۲۔ اَحْبَشَت المرأۃ عورت کا حبشی بچہ جننا الحَبَش والحَبَشَۃ واحد حَبَشِیٌّ جمع حُبْشَان ملک حبش کا باشندہ الحَبَشۃ ملک حبش الأحْبُش جمع اَحَابِش: حبشی۔ الحُبْشِیَّۃ نہایت سیاہ (اونٹ (ح)) بڑے جثہ کی سیاہ چیونٹیوں کی ایک قسم۔ الحُبَاشِیَّۃ (ح) عقاب۔

○ الحَبَش ابی سینیا، ایتھوپیا جمع اَحْبَاش ابی سینیا، ایتھوپیا کے باشندے۔ الحَبَش بلاد والحَبَشۃ ابی سینیا، ایتھوپیا (ملک کا نام) حَبَشی جمع اَحْبَاش ابی سینیا، ایتھوپیا کا باشندہ۔

حبض ا۔ حَبَضَ ـِ حَبْضًا و حَبِضَ ـَ حَبَضًا السہمُ تیر کا تیر انداز کے سامنے ہی گر جانا اور سیدھا نہ جانا۔ ــ فلانٌ بالوتر تار بجانا، آواز نکالنے کے لئے تار ہلانا۔ ــ ـُ حُبُوضًا السہمُ تیر کا تیر انداز کے سامنے ہی گر جانا اور سیدھا نہ جانا۔

۲۔ حَبَضَ ـِ حَبْضًا و حَبِضَ ـَ حَبَضًا الرجلُ: مرنا۔ القلبُ دل کا سخت دھڑکنے کے بعد ساکن ہو جانا الحَبَض (مص) رگ کی تیز دھڑکن۔ کہا جاتا ہے۔ مابہ حَبَضٌ ولا نَبَضٌ اس میں حس وحرکت نہیں۔

۳۔ حَبَضَ ـِ حُبُوضًا ماءُ البئر کنویں کا پانی گھٹ جانا۔ اَحْبَضَ البئرَ کنویں کا پانی ختم کرنا۔

۴۔ حَبَضَ ـِ حُبُوضًا حقہ کا حق تلف ہونا۔

۵۔ حَبَضَ ـِ حُبُوضًا الغلامُ لڑکے کا لوگوں کے نیک گمان کے خلاف نکلنا۔

رجلٌ حَابِضٌ و حَبَّاضٌ کنجوس وبخیل آدمی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
marfat.com
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

المِحْبَض جمع مَحَابِض و مَحَابِيض زمنے کی کمان۔ شہد نکالنے کی لکڑی۔

حبط ۱۔ حَبِطَ ـَ حَبْطًا و حُبُوطًا عملُهُ بے عمل کا بیکار جانا، خراب ہونا، برباد ہونا۔ ـ دمُ القتيلِ مقتول کا خون رائیگاں جانا۔ ـ ماءُ البئر کنویں کا پانی ہمیشہ کیلئے کم ہو جانا۔ أَحْبَطَ عَمَلَهُ کا کام بیکار و باطل کرنا۔ ـ ماءُ البئرِ کنویں کا پانی ہمیشہ کیلئے کم ہو جانا۔

۲۔ حَبِطَ ـَ حَبَطًا البعيرُ خدقوق نامی نبات کھانے سے اونٹ کا پیٹ پھول جانا صفت حَبِطٌ جمع حَبَاطَى اس بیماری کا نام حُبَاط ہے۔ الحَبَنْطى غصے میں بھرا ہوا، موٹا اور پستہ قد۔

۳۔ أَحْبَطَ عنه سے روگردانی کرنا، اعراض کرنا، کہا جاتا ہے۔ تَعَلَّقَ به ثم أَحْبَطَ عنه پہلے اس کا تعلق اس سے ہوا پھر اس نے اس سے روگردانی کی۔

۴۔ أَحْبَطَ الضربُ زيدًا چوٹ کا زید پر نشان چھوڑنا۔ الحَبَط (مص) جسم پر زخم اور کوڑوں کا نشان، مار کے سبب سوجن۔

○ حَبَطَ ـِ حُبُوطًا کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا، کچھ نہ بننا، ناکام رہنا، کا ٹھیک نتیجہ نہ نکلنا، خراب ہو جانا، کے اخلاق بگڑ جانا، رائیگاں جانا، لا حاصل ہونا، بے کار ہونا، بے اثر ہونا، بے نتیجہ ہونا، فضول ہونا۔ أَحْبَطَ کو نا کام بنانا، بے اثر کرنا۔ ـ ه على کو کسی کو نا کام بنانا۔ محروم کرنا، مایوس کرنا، شکست دینا (یعنی مذاکرات، کوششوں وغیرہ میں) حَبَط زخم کا داغ حُبُوط نا کامی، فضول ہونا، بے اثر ہونا، کمی، نقصان، فقدان، إحباط شکست، محرومی، مایوسی نا کام بنا دینا۔

حبق: حَبَقَ ـِ حَبْقًا و حَبِقًا و حُبَاقًا کو مارنا، زدو کوب کرنا۔

۲۔ حَبَقَ ـِ حَبْقًا و حَبِقًا و حُبَاقًا العنز بکری کا گوز کرنا، اس کا زیادہ تر استعمال اونٹوں اور بکریوں کے لئے ہے۔

۳۔ حَبَقُوا و تَحَابَقُوا عليه نے بے وقوفی کا برتاؤ کرنا، کے ساتھ جہالت سے کام لینا۔ الحُبُق والحَبَقَة کم عقل، کہا جاتا ہے: رجل حَبَقَّة جاہل آدمی الحَبِق بے خیر آدمی۔

۴۔ حَبَّقَ المتاعَ سامان جمع کرنا۔ مضبوط کرنا۔

۵۔ أُحْبِقَ بدکار ہونا، مطیع ہونا۔

۶۔ الحَبَق (ن) پودینہ۔ حَبَقُ الماء (ن) بہری نعناع۔ ـ البقرِ (ن) بونہ۔ الفتى اولفيل (ن) مرزنجوش۔

حبك: حَبَكَ ـِ حَبْكًا کو مضبوطی سے باندھنا۔ الحائك الثوبَ جولاہے کا کپڑے کو کاریگری سے اور عمدہ بننا۔ حَبَّكَ ه کو مضبوط کرنا۔ أَحْبَكَ ه کو مضبوط کرنا۔ اچھے طریقے سے کرنا۔ تَحَبَّكَ کپڑے میں لپٹنا، کمر بند باندھنا۔ إِحْتَبَكَ الثوبَ کپڑا عمدہ بننا۔ ـ بالازار ازار باندھنا۔ الحَبِيك مونث حَبِيكَة بنا ہوا۔ الحُبْكَة کمر بند۔ پٹکا۔ المَحْبَك ازار باندھنے کی جگہ الحِبَاك جمع حُبُك کمر بند، پٹکا، باڑہ۔ ریت وغیرہ میں راستہ۔ المَحْبُوك مضبوط جسم اور بناوٹ والا۔ الحَبِيكَة جمع حَبَائِك و حَبِيك و حُبُك بالوں کی ایک لٹ، ریت کے ٹیلہ کا راستہ۔ (فلک): ستاروں کے درمیان کا راستہ کہا جاتا ہے۔ السماءُ ذات الحُبُك عمدہ راستوں والا آسمان یا عمدہ بناوٹ والا آسمان۔ رأسُه حُبُك اس کے سر کے بال لہرے ہیں۔

۲۔ حَبْكَرَ الشيءَ کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، تَحَبْكَرَ في طريقه راستہ میں حیران ہونا۔

○ حَبَكَ ـِ حَبْكًا ه کو عمدہ اور مضبوط بننا، کو گوندھنا میں پلیٹ ڈالنا، کو کسنا، کو بل دینا، ملا کر بٹنا، میں بل ڈالنا، لپیٹنا، بننا، (منصوبہ) باندھنا، کی تدبیر کرنا۔ حَبَّكَ ه کو کسنا، بل دینا، ملا کر بٹنا، بننا، جوڑنا، حَبْكَة پارچہ، کپڑا، کپڑے کی ساخت، بافت، ریشہ، بناوٹ، ساخت، ڈھانچہ، ترکیب۔ حُبُك: حُبُك النجوم اجرام سماویہ کے مدار حِيَاكَة بننا، جولاہے کا پیشہ، مَحْبُوك کس کر بنا ہوا، کسا ہوا، تنا ہوا، مضبوط، گھٹا ہوا، موٹا تازہ، تنومند، چھلکے دار، مُحْتَبِك ملا کر بنا ہوا، گوندھا ہوا، باہم وابستہ، بیچ میں سے کاٹتے ہوئے گزرنے والا۔

حبل: حَبَلَ ـُ حَبْلًا الصيدَ شکار کو پھندے سے پکڑنا صفت: حَابِل۔ إِحْتَبَلَ الصيدَ شکار کو پھندے سے پکڑنا، کہا جاتا ہے: احتبله الموت بحبائله موت نے اس کو اپنے پھندے میں لے لیا۔ وتَحَبَّلَ الصيدُ شکار کا پھندے میں پھنسنا۔ الحَابِل (پھندے کے ذریعے شکار پکڑنے والا) شکاری۔ کہا جاتا ہے: ثار حابلهم على نابلهم انہوں نے اپنے درمیان فساد کی آگ بھڑکائی۔ یہ لوگوں کو پہنچنے والی سختی کے بارے میں ضرب المثل ہے۔ حابل پھندا لگانے والے کو کہتے ہیں اور نابل کمان سے تیر پھینکنے والے کو کہتے ہیں۔ نیز کہا جاتا ہے اختلط الحابل بالمقابل یہ مثل معاملہ پیچیدہ ہونے کے وقت بولی جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک حابل سے تانا اور نابل سے بانا مراد ہے یہ بھی کہا جاتا ہے: دار حابله على نابله اس کا اول آخر پر گھوم گیا۔ حَوَّل حابله على نابله اس نے اوپر کو نیچے کر دیا۔ الحِبَالة جمع حَبَائِل پھندہ۔ الأُحْبُول والأُحْبُولة جمع أَحَابِيل پھندہ۔

۲۔ حَبَلَ ـِ حَبْلًا ه کو رسی سے باندھنا۔ إِحْتَبَلَ و تَحَبَّلَ و تَحَبَّلَت الدابةُ جانور کا اپنی ٹانگوں کو رسی میں پھنسا لینا۔ الحَبْل جمع حِبَال و أَحْبُل و حُبُول و أَحْبَال باندھنے کی چیز، رسی (کہا جاتا ہے: صرم حِبَالَه اس نے تعلقات توڑ لئے) ملاپ (کہا جاتا ہے): وصل زيدٌ حبلَ عمرو زید نے اپنی بیٹی کی عمرو سے شادی کر دی) ریت کا لمبا قطعہ۔ الحَابُول کھجور کے درخت پر چڑھنے کی چھال کی رسی۔ الحَبَّال رسی بنانے یا بیچنے والا۔ المَحْبُول رسی، بٹا ہوا، گوندھا ہوا شعر مَحْبُول گوندھے یا بٹے ہوئے بال۔ مُحْتَبَل الفرس گھوڑی کی ٹانگ اور کھر کا جوڑ۔

۳۔ حَبِلَ ـَ حَبَلًا تِ المرأةُ عورت کا حاملہ ہونا صفت: حابل جمع حَبَلَة و حُبْلَى جمع حَبَالَى و حُبْلَيَات و حَبَلَانة۔ ـ من الماء پانی سے بھر جانا۔ صفت: حَبْلَان۔ حَبَّلَ و أَحْبَلَ ها عورت کو حاملہ کرنا۔ الحَبَل ان کے پیٹ میں موجود بچہ، رحم کا بھرنا، بھرنا، الحُبَال بھرنا، کہا جاتا ہے۔ به حُبَال من الشراب وہ شراب سے پر ہے۔ المَحْبَل: رحم الحَبْلَان مونث حَبْلَانة حمل بھرا ہوا۔ غصہ اور کینہ سے۔

۴۔ أَحْبَلَ النخلَ کھجور کے درخت کو گابھا دینا۔

۵۔ الحَبْل عہد و ذمہ (کہا جاتا ہے: هو يحطب في حَبْلِ فلان وہ اس کی مدد و اعانت کرتا ہے) رگ بدن جیسے حبل الذراع و حبل الوريد کہا جاتا ہے۔ هو على حبل ذراعِك وہ تم سے قریب ہے۔ الحَبَلَة غضب، غم۔ واحد حَبَلَة الحَبَلَة أُحْبَال (ن) انگور کی بیل یا اس کی شاخیں۔ جمع حُبُول۔ الحِبْل بڑا ہوشیار عالم۔ بڑا چالاک و مکار۔ الحَابِل جادوگر، الحَبْلَق چیز کا مناسب وقت، بوجھ۔

○ إِحْتَبَلَ ه کو دام میں گرفتار کرنا، جال میں پھانسنا، کو جال، دام، پھندے میں پکڑنا حِبَالَة جمع حَبَائِل جال واحْبُل وحُبُول واحْبَال رسی، مضبوط رسہ، موٹا رسہ، جہاز کا رسہ، دھاگا، ڈوری، طناب جمع حِبَال (سورج، روشنی کی) شعاع، کرن، پانی کی تیز دھار، رگ، پٹھا، نس، عضلہ، حبل الوريد رگ گردن۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الحبلُ السُّرّی: بچہ کی نال۔ الحبل الشَوکِیّ: ریڑھ کی ہڈی، حِبال صوتیہ: آواز کی نالیاں۔ حبلُ المساکین: عشق پیچاں (بیل) حبال الماء: پانی کی تیز دھاریں۔ القی (اطلق) الحبل علی الغارب: معاملات کو ہونے دینا، باگیں ڈھیلی کرنا، کھلی چھٹی دینا، کوئی پابندی عائد نہ کرنا، ارتخاء الحبل: باگیں ڈھیلی ہونا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، نرم ہونا، ترس کھانا۔ اِضطَرَبَ حبلُہ: بے قابو ہونا، بے ترتیبی، ابتری، بدانتظامی، یا انتشار کی حالت میں مبتلا ہو جانا۔ لَعِبَ عَلَی الحَبلَیْن: دورُخی چال چلنا، اُحبُولَۃ جمع اَحَابِیل: جال، پھندا، دام، کمند کا رسہ۔ جمع احابیل: چالیں، داؤ پیچ، گھاتیں، دھوکے، فریب، کرتب، حیلے، چالبازیاں ــــ حِبَالَۃ جمع حَبَائِل: جال، پھندا، دام، حابل اختلط الحابلُ بالنابل: ہر چیز خلط ملط ہو گئی۔ درہم برہم ہو گئی، گڈ مڈ ہو گئی، سخت ابتری کی حالت میں مبتلا ہو جانا۔ حابلھم و نابلھم: سب مل کر، سب معجون مرکب میں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ حَبَل: حمل۔

حبن: ۱۔ حَبِنَ ـ حَبَنًا و حُبِن حَبْنًا: بڑے اور سوجے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت: حَابِن و مَحْبُون و أَحْبَن ـ علیہ: کے خلاف غصہ میں بھر جانا۔ أَحْبَنَ ہ الــداءُ: بیماری کا کسی کو سوجے ہوئے پیٹ والا کر دینا۔ الحِبْن جمع حُبُون: پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا۔ اُمُّ حُبَیْن و الحُبَیْنَۃ (ح): گرگٹ کے مشابہ ایک جانور، عام لوگ اسے ابو بُرَیص کہتے ہیں۔

۲۔ الحَبْن و الحَبین (ن): کنیر کا درخت الحِبْن جمع حُبُون (ح): بندر۔

○ حَبَن: جلندر، حد سے زیادہ نفخ، پھولا ہوا ہونا، بلودھر، استسقاء۔

○ حَبْھَان (حَبُّ الھَان): الائچی۔

حبا: ۱۔ حَبَا ـُ حَبْوًا: نزدیک ہونا، کہا جاتا ہے، حبوتُ اِلی الخمسین: میں پچاس سال کے قریب ہو گیا۔ ـ ت الشَراسِیفُ: پسلیوں کے پیٹ کی جانب کناروں کا لمبا اور قریب قریب ہونا۔ الحباو الحَبِیّ: گہرا بادل جو زمین کے قریب ہو۔ الحَابِی (فا): گردن تک اٹھے ہوئے کندھوں والا۔ کہا جاتا ہے: انہ لحابی الشَراسِیف: وہ اٹھے ہوئے پہلوؤں والا ہے۔ الشرسُوف: پیٹ کے قریب پسلی کا کنارہ ہے۔

۲۔ حَبَا ـُ حَبْوًا ماحولہ: اردگرد کی حفاظت کرنا اور اس سے دور رکھنا۔ ـ ہ عن کذا: کو سے منع کرنا۔ حَبّی ہ: کی حفاظت کرنا، سے منع ہونا۔

۳۔ حبَا ـُ حَبَوَاتِ السفینۃُ: کشتی کا چلنا۔ الولدُ: بچے کا سرین اور ہاتھوں کے بل گھسٹنا ــــ السھْم: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ أَحْبَی الرامی: تیرانداز کا تیر کا نشانہ خطا کرنا۔ کہا جاتا ہے: رَمَی فأَحْبَی: اس نے تیر چلایا مگر وہ نشانہ پر نہ لگا۔

۴۔ حَبَا ـُ ہ کذا و بکذا: کو کچھ بغیر بدلہ کے دینا۔ الحُبْوَۃ و الحَبْوَۃ و الحِبْوَۃ: عطیہ، بخشش، الحِباء: عطیہ، بخشش، عورت کا مہر۔

۵۔ حَبَا ـُ حَبْوًا الشیءُ لہ: کو پیش آنا۔

۶۔ حَابَی مُحَاباۃً و حِبَاءً الرجلَ: کی مدد کرنا، طرف داری کرنا، کی طرف مائل ہونا ــــ القاضی زیدًا فی الحکم: قاضی کا انصاف سے روگردانی کر کے حکم میں زید کی طرف مائل ہونا ــــ ہ فی البیع: بیع میں کسی سے رواداری برتنا۔

۷۔ اِحْتَبَی اِحْتِبَاءً: ٹانگوں اور پیٹھ کو پگڑی وغیرہ سے اکٹھا کرنا۔ بالثوب: کپڑے میں لپٹنا۔ الحُبْوَۃ والحَبْوَۃ جمع حُبًی و حِبًی: کپڑا یا پگڑی جو لپیٹی جائے۔ کہا جاتا ہے۔ حلّ حبوتہ: وہ اٹھا اور عقد حبوتہ: اور بیٹھ گیا۔

○ حَبَا ـُ حَبْوًا: پیٹ کے بل چلنا۔ رینگنا، دبے پاؤں چلنا۔ گھسٹنا ــــ ہ ہ: کو کوئی چیز دینا۔ کو کوئی چیز انعام دینا، حَابَی ہ: کی مدد کرنا، سے بامروت ہونا، سے خیر خواہی ظاہر کرنا، سے ہمدردی کرنا، کی طرف داری کرنا، کا احترام کرنا۔ اِحْتَبَی: اپنی ٹانگیں اونچی کر کے اور کسی کپڑے کو لپیٹ کر بیٹھنا۔ حَبْوَۃ و حِبْوَۃ و حُبْوَۃ: تحفہ، عطیہ، حِباء: تحفہ، عطیہ، مُحَاباۃ: حسن اخلاق، بامروتی، خوش اخلاقی، فروتنی، تہذیب، انسانیت، اخلاق، خلق، تواضع، التفات، ملنساری، کرم، مہربانی، طرف داری، جانبداری، رعایت، پاسداری۔

حتّ: ۱۔ حَتَّ ـُ حَتًّا الشیءَ عن الثوب: کپڑے پر سے کیچڑ وغیرہ مل کر چھڑانا ــــ الشجرَ: درخت کے پتے جھاڑنا، چھال اتارنا ــــ الورق اُو القشرُ عن الشجر: درخت سے پتے جھڑنا، چھال گرنا۔ تَحَاتّ تَحَاتًّا و اِنْحَتَّ اِنْحِتَاتًا الورقُ من الشجر: درخت سے پتے جھڑنا ــــ شعرہُ عن رَاسِہِ: کے سر کے بال گرنا ــــ ت الاسنانُ: دانتوں کا کھوکھلا ہو کر گر جانا۔ الحَتّ: جمع اَحْتَات: تیز رفتار کہا جاتا ہے۔ فرسٌ حَتٌّ: تیز رفتار گھوڑا۔ ترکوھم حَتًّا بَتًّا او حَتًّا فَتًّا: انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مافی یدی [illegible] حَتّۃ: [illegible] چیز نہیں۔ الحَتَت (ز): درختوں کی بیماری جس میں اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ الحُتَات: بکھری ہوئی چیز۔ الحَتُوت و المِحْتَات من النخل: وہ کھجور کا درخت جس کا کچا پھل گر جائے۔

۲۔ حَتَّ ـُ حَتًّا ہ عن الشیء: کو سے ہٹا دینا۔

۳۔ الحَتّ جمع اَحْتَات: مردہ ٹڈی۔

۴۔ حَتْحَتَ: جلدی کرنا۔ تحتحت الورقُ: پتوں کا گرنا۔ جھڑنا۔

۵۔ حَتَّی: حرف جار کے طور پر مندرجہ ذیل معانی میں آتا ہے:۔

۱) حرف انتہاء: جیسے اکلتُ السمکۃ حتی راسِھا: میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھایا (یعنی سر نہیں کھایا)

۲) مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتا ہے اور ان مصدریہ محذوف کے معنی میں غایت ظاہر کرتا ہے۔ جیسے: سرت حتی ادخلَ المدینۃ: میں چلتا رہا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا۔ میں شہر میں داخل ہونے تک چلتا رہا۔

۳۔ علت یا وجہ بتانے کے لئے: جیسے تَرَھَّبْتُ حتی اتُوبَ: میں نے توبہ کرنے کے لئے رہبانیت اختیار کی۔

۴) حرف عطف بمعنی واو۔ جیسے: اکلت السمکۃ حتی رَاسَھا: میں نے مچھلی اور اس کے سر کو کھا لیا۔

۵) حرف ابتداء، جیسے فواعجبًا حتی کُلَیْبٌ تَسُبُّنِیْ: بڑا تعجب ہے کہ کلیب بھی مجھے گالیاں دینے لگے۔ کلیب یہاں مبتداء ہے۔ حَتَّامَ: کب تک۔ اصل میں حتی ما ہے۔ مااستفھامیۃ کا الف حذف کر دیا گیا ہے اور یہ حَتّی کا مجرور ہے۔ اس کا معنی الی متی ہے۔

○ حَتَّ ـُ حَتًّا ہ: کو رگڑ کر دور کرنا، کھرچ کر اتارنا، یا صاف کرنا، چھیل کر اتارنا۔ حِتَّۃ جمع حِتَت: ٹکڑا، لقمہ، نوالہ، حَتّی: تک، جب تک نہ، تاکہ، اس طرح کہ، یوں کہ، بھی، آخرکار یا انجام کار بھی، حتی لو: خواہ، ہی کیوں نہ ہو، بھی نہیں، سہی، حُتَات: ردی ٹکڑے۔ لقمے، نوالے، تَحَاتّ: کھایا جانا، گھل جانا، گھس جانا، تحلیل۔

حتا: ۱۔ حَتَأَ ـَ حَتْأً و أَحْتَأَ العُقْدَۃَ: گرہ باندھنا۔ الجِدارَ: دیوار مضبوط کرنا، جمانا۔

۲۔ حَتَأَ ـَ حَتْأً و أَحْتَأَ الحِمْلَ عن الدابۃ: بوجھ کو جانور سے اتار لینا۔

۳۔ حَتَأَ ـَ حَتْأً و اَحْتَأَ الشیءَ: کو لگا تار دیکھنا۔

حتد: ۱۔ حَتَدَ ـِ حُتُودًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔

۔ حَتِدَ ـَ حَتَدًا: خالص الاصل ہونا صفت: حَتِد۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حَتَدَ الشيْءَ: کو خالص اور نفیس ہونے کی وجہ سے چن لینا۔ الحُتُد والحَتَد من الشيء: چیز کا اصل اور جوہر۔ الحُتُد من العیون: وہ چشمہ جس کا پانی ختم نہ ہو۔ المَحْتِد: اصل، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ کریمُ المَحْتد: فلاں شخص شریف الاصل ہے۔

○ حَتِدَ ـ حَتَدًا: خالص نسل یا اصل والا ہونا۔
مَحْتِد: اصل، پشت، پیڑھی، نسل، نسب، سلسلہ، نسب، شجرۂ نسب۔

حتر: ا۔ حَتَرَ ـِ حَتْرًا و حُتُورًا: کی خوراک گھٹا دینا۔ بخشش میں کمی کر دینا۔ ـ له شَيْئًا: کو تھوڑی چیز دینا۔ ـ اهلَهُ: اہل وعیال کے نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ماحترتُ اليومَ شيئًا: آج مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ حَتَّرَ: نان نفقہ میں کمی کرنا۔ أحْتَرَ الرجلُ: آدمی کا تھوڑی بھلائی اور بخشش والا ہونا۔ علینا الرزقَ: ہمارا رزق کم کرنا یا روک لینا۔ الحُتْر (تثلیث الحاء) تھوڑی چیز یا بخشش۔ الحُتْرَة: بچہ کا ایک بار دودھ چوسنا الحَتِيرَة: (بعض کے نزدیک الحَتِيرَة عمارت بنانے والوں کے لئے تیار کیا جانے والا کھانا۔

٢۔ حَتَرَ ـِ حَتْرًا و حُتُورًا ہ: کو تیز نگاہ سے دیکھنا۔

٣۔ حَتَرَ ـُ حَتْرًا و حُتُورًا ہ: کو باندھنا، مضبوط کرنا، حَتَّرَ البيتَ: گھر کے گرد گھیرا بنانا۔ احْتَرَ الشيءَ: کو مضبوط کرنا، حِتَارٌ جمع حُتُرُ الشيء: کنارہ، گھیرا۔ حِتَارُ الأذن: کان کا کنارہ۔ حِتَارُ الظفر: ناخن کے اردگرد کا گوشت۔ حِتَارُ المنخل و الغربال: چھلنی کا گھیرا۔

٤۔ حَتْرَشَ حَتْرَشَةً الجرادُ: ٹڈی کا کھانے میں آواز نکالنا۔ تَحَتْرَشَ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ الحُتْرُوش: چست لڑکا۔ الحَتَارِش: بچے کی حرکتیں، کہا جاتا ہے: ما احسنَ حَتَارِشَ هذا الصبّي: اس بچے کی حرکتیں کتنی بھلی اور پیاری ہیں!

٥۔ تَحَتْرَفَ الشيءُ: بکھر جانا، کہا جاتا ہے۔ تَحَتْرَفَ الشيءُ من يدي: چیز میرے ہاتھ سے بکھر گئی۔ الحَتْرَفَة: آنکھ کی سرخی، خشونت۔

○ حُتْرَة: چھوٹا ٹکڑا۔ معمولی سی چیز یا بات حِتَار جمع حُتُر: کنارا، حاشیہ، گردوپیش، گردونواح، قرب و جوار، ماحول۔

حتف: الحَتْف جمع حُتُوف: موت، کہا جاتا ہے۔ مات حَتْفَ انفِهِ او حتفَ فيه: وہ قتل یا چوٹ سے نہیں بلکہ اپنے بستر پر مرا یعنی طبعی موت مرا۔

○ يَبْحَثُ عَن (يَسْعَى إلى) حَتْفِهِ بِظِلْفِهِ: وہ اپنی تباہی کا خود ہی باعث ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ہی قبر کھود رہا ہے۔ مات حتفَ انفِهِ: وہ طبعی موت مرا۔

حتك: حَتَكَ ـِ حَتْكًا و حَتَكَانًا و تَحَتَّكَ: چھوٹے اور تیز قدموں سے چلنا۔ الحَتَكَ و الحَوَاتِك (ح): شترمرغ کے بچے۔

حتل: حَتَلَ ـُ حُتْلاہ: کو دینا۔ الحِتْل و الحَاتِل: مثل، مشابہ۔

حتم: ا۔ حَتَمَ ـِ حَتْمًا الشيءَ: کو مضبوط کرنا۔

٢۔ حَتَمَ ـِ حَتْمًا الشيءَ عليه: کو پر واجب کرنا۔ ـ بالشيء: کسی چیز کا حکم لگانا، فیصلہ کرنا۔ تَحَتَّمَ الشيءَ على نفسه: کو اپنے پر لازم یا واجب کر لینا۔ ـ وانْحَتَمَ الامرُ: کسی معاملہ کا ایسا لازم ہونا کہ اس کا خلاف ناممکن ہو۔ الحَتْم جمع حُتُوم: فیصلہ۔ الحاتِم (فا): حاکم (کہا جاتا ہے: حتم الحاتِمُ بكذا: حاکم نے اس چیز کا فیصلہ دیا) کوا۔

٣۔ تَحَتَّمَ: دسترخوان کا بچا ہوا کھانا کھانا۔ الحُتَامَة: دسترخوان کا بچا ہوا کھانا۔

٤۔ تَحَتَّمَ: ہشاش بشاش ہونا۔ اپنی خوشی کا اظہار کرنا۔

٥۔ تَحَتَّمَ الزجاجُ بعضُه على بعض: شیشے کا ایک دوسرے پر گر کر چکنا چور ہو جانا۔

٦۔ الحَتْم (مص) جمع حُتُوم: خالص (کہا جاتا ہے: هو الاخُ الحَتْمُ: وہ سگا اور حقیقی بھائی ہے۔ هذا ولدٌ حَتْمٌ: یہ حقیقی لڑکا ہے، جس کے نسب میں کوئی شک نہیں) سیاہ۔ الحاتِم: سیاہ۔ الحُتْمَة: سیاہی الأَحْتَم: سیاہ۔

○ حَتَمَ ـِ حَتْمًا ہ على: کا کیلئے حکم جاری کرنا، کو کیلئے ضروری بنانا، کو کیلئے مقرر کرنا، کو کیلئے فرض، واجب یا ضرورت بنانا، کو پر عائد کرنا، کی کسی کو ہدایت کرنا۔ ـ ب: کا فیصلہ کرنا، کا یقین کرنا۔ حَتَّمَ ہ على: کا کیلئے حکم جاری کرنا، کو کیلئے ضروری بنانا، کو کیلئے مقرر کرنا، کو کیلئے فرض، واجب یا ضرورت بنانا تَحَتَّمَ: ضروری ہونا، ـ على: کا فرض ہونا، پر واجب ہونا، لازمی ہونا۔ حَتْم جمع حُتُوم: جاید کرنا، حکم، ہدایت، تاکید، آخری فیصلہ، قرارداد، تعیین، حَتْمًا: قطعًا، یقینًا، واضح طور پر، بالضرور، لازمی طور پر، لازمًا، چارًا ناچار، ناگزیر طور پر۔ حَتْمِيٌّ: ناگزیر، اٹل، عین فطرت کے مطابق۔ واضح قطعی، غیر مبہم، فیصلہ کن، ناقابل تنسیخ، دوٹوک، ناقابل تبدیلی، آخری، طے شدہ۔ حَتْمِيَة: قطعیت، وضوح، ناطقیت، فیصلہ کنی، فیصلہ، تصفیہ، تاریخ، وقت یا حدود کا تعین، ارادہ، قصد، عزم، ثابت قدمی، ناقابل تبدیلیت، ضرورت، لاحتمية: یہ نظریہ کہ افعال انسانی کلی طور پر متعین نہیں ہوتے، عدم تعین کا عقیدہ (فلسفہ میں)۔ محتوم: عاید، موکد، نصیحت کردہ، حکم دیا ہوا، ہدایت کیا ہوا، ضروری، واجب، لازم، لازمی، ناگزیر، اخلاقًا وقانونًا لازم، محدود، مقرر، طے شدہ، مستقل، معین، پکا، پختہ، ناطق، قطعی، فیصلہ کن، قاطع، مقرر شدہ، مصمم، ناقابل تغیر، اٹل، عین فطرت کے مطابق، مبرم، مقدر، ٹھہرایا ہوا، مامور، پہلے سے لکھا ہوا، پہلے سے فیصلہ کیا ہوا۔ مُحَتَّم: عاید شدہ، تاکید کیا ہوا، موکد، ضروری، واجب، لازم، لازمی، ناگزیر، مقرر، طے شدہ، معین، مقرر شدہ، فیصلہ کن، قاطع، ناقابل تغیر، اٹل، پہلے سے لکھا ہوا، پہلے سے فیصلہ کیا ہوا۔ مُتَحَتِّم: انتہائی ضروری۔ واجب (فرض)۔

حتن: ا۔ حَتِنَ ـَ حَتَنًا الحرُّ: گرمی کا شدید ہونا۔

٢۔ أَحْتَنَ الرجلُ: کے سارے تیروں کا ایک ہی جگہ پڑنا۔ تَحَاتَنَ القومُ في الأمر: کسی امر میں لوگوں کا یکساں ومساوی ہونا، کہا جاتا ہے: تَحَاتَنَ الدمُ: آنسوؤں کے دو دو قطرے گرے۔ تحاتنت الرياحُ: مختلف الجہات ہوائیں پے در پے چلیں اِحْتَتَنَ: بالکل برابر ہونا۔ الحَتْن و الحِتْن: مساوی، ایک جیسا، ساتھی، کہا جاتا ہے: هما حتنان: وہ دونوں برابر ہیں۔ الحاتِن من الأيّام: وہ دن جس کا اول و آخر گرمی میں برابر ہو۔

حتا: حَتَا يَحتو حَتْوًا: بہت تیز دوڑنا۔

حتی: حَتَى ـِ حَتْيًا و أَحْتَى الحبلَ: رسی بٹنا۔ ـ ہ: کو سینا، مضبوط کرنا۔ فرسٌ مُحْتَاةُ الخَلْق: مضبوط ہاتھ پاؤں کا گھوڑا۔

حث: ا۔ حَثَّ ـُ حَثًّا و حَثَّثَ تَحْثِيثًا و احْتَثَّ إحْتِثَاثًا و اِسْتَحَثَّ اِسْتِحْثَاثًا الرجلَ على الأمر: کو کسی کام پر اکسانا، کو کوئی کام کرنے پر سرگرم کرنا۔ حَاثَّ ہ: کو برانگیختہ کرنا، اکسانا، ابھارنا۔ تَحَاثَّ القومُ: ایک دوسرے کو اکسانا۔ اِحْتَثَّ اِحْتِثَاثًا: برانگیختہ ہونا، برانگیختہ کیا جانا (لازم ومتعدی) الحَثِيث و الحَثُوث: تیز۔ کہا جاتا ہے۔ ولّى حَثِيثًا: وہ تیزی سے واپس پھرا۔ الحَثَاث و الحِثَاث: تیزی، تھوڑی نیند، جھپکی کہا جاتا ہے۔ ما اكتحل فلانٌ حَثَاثًا: اس نے ذرا سی نیند بھی نہیں لی۔

٢۔ الحُثّ: بھوسے کے ریزے۔ خشک روئی، چمکتی ہوئی ریت۔

٣۔ حَثْحَثَ البرقُ: بجلی کا بادل میں کوندنا۔ ـ الميلَ في العين: سرمہ کی سلائی کو آنکھ میں ہلانا۔ ـ فلانًا: کو کسی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چیز پر اکسانا، برانگیختہ کرنا تَحَثْحَثَ القومُ: تیار ہونا، آمادہ ہونا الحثحاث و الحُثْحُوث: بہت جلدی کرنے والا۔

حَثَّ ـُ حَثًّا ہ علی: کو کچھ کرنے پر اکسانا، ترغیب دینا، مجبور کرنا، سے کا تقاضا کرنا، کو پر آمادہ کرنا، جانور کو تیز چلانا، کو ایڑ لگانا، مہمیز کرنا، تیز دوڑانا، کو کا لالچ دینا، کو کی تحریص کرنا، کو پر ابھارنا، کو پر بھڑکانا، اشتعال دینا، طیش دلانا، برانگیختہ کرنا حَثَّ خُطَاہ إلی: کی طرف قدم تیز کرنا، جلدی کرنا حَثَّ الطریقَ: جلدی کرنا، دوڑنا، جلدی جلدی قدم اٹھانا حَثَّ قَدَمَیہ: تیز قدم ہونا، دوڑنے لگنا احْتَثَّ و اِسْتَحَثَّ: بمعنی حَثَّ حَثِیث: تیز، تیز رو، تیز رفتار، تند، چست، جلد باز، پھرتیلا حَاثَّة: ایک مادہ جو غدودوں سے نکل کر خون میں شامل ہوتا ہے اور تحریک اعضاء کا باعث بنتا ہے۔ بارمون (Harmone)

حثر: احَثِرَ ـَ حَثَرًا الجلدُ: جلد کا پھنسی دار ہونا۔ العسلُ: شہد کا خراب ہونے کے سبب دانے دار ہونا۔ صفت حَاثِر و حَثِر۔ حَثَّرَ الدواءَ: دوا کی گولیاں بنانا أَحْثَرَ و تَحَثَّر النخلُ: کھجور کے درخت کا پھل لانا الحَثَر: انگور کا دانہ جو ابھی ظاہر ہی ہوا ہو۔ الحَثِر: پھنسی والا، کہا جاتا ہے طعامٌ حَثِر: بکھرا ہوا کھانا جس میں کوئی خیر نہ ہو فؤادٌ حَثِر: وہ دل جو یاد نہ رکھ سکے۔

۲۔ حَثِرَ ـَ حَثَرًا الشیُٔ: کشادہ ہونا، صفت حَثِر و حَثُر ـَ ت العینُ: آشوب چشم سے آنکھ کا متورم ہونا الحَثَر (مص): تلچھٹ۔

۳ حَثُرَبَ الماءُ: پانی کا گدلا ہونا ـ تِ البئرُ: کنویں کا گدلے پانی والا ہونا الحُثْرُب: گدلا پانی۔ (ن): میدانی سبزی۔

حثل: احَثِلَ ـَ حَثَلًا: بڑے پیٹ والا ہونا۔

۲۔ أَحْثَلَ تِ الأُمُّ وَلَدَها: ماں کا بچے کو خراب غذا دینا۔ صفت مفعول حَثِیل: ـ الدهرُ فلانًا: زمانہ کا کسی کو بدحال کر دینا الحَثَل: دودھ پلانے کی خرابی، بدحالی المِحْثَل: لاغر، کمزور۔

۳۔ الحُثَال و الحُثَالَة: چاول یا جو وغیرہ کا چھلکا (جو گر گیا ہو) حُثَالَةُ الدهنِ: تیل کا تلچھٹ ـ الناسِ: گھٹیا رذیل لوگ الحِثْلَة: حوض میں تھوڑا بچا ہوا پانی۔

حُثَالَة: بے کار شے، تلچھٹ، ذرا سا بچا ہوا حصہ فضلہ، گاد، (مجازًا)، چوکر، بھوسی، میل کچیل، پھوک، ریزے، چھانٹا ہوا پتہ، ردی، بیکار چیزیں، ٹوٹی پھوٹی چیزیں حثالةُ الحریر: ریشم کے ٹکڑے۔

حثم: حَثَمَ ـُ حَثْمًا الشیَٔ: کو ملنا، رگڑنا ـ له: کو دینا المُحْثُمة: بند کے نزدیک پانی گرنے کی جگہ الحَثْمَة والحَثَمَة جمع حِثَام: چھوٹا ٹیلہ، ناک کا بانسہ۔

حثا: احَثَا ـُ حَثْوًا و حَثَی ـِ حَثْیًا و تَحْثَاءً لهُ: کو تھوڑی سی چیز دیدینا۔

۲ حَثَا ـُ حَثْوًا و حَثَی ـِ حَثْیًا و تَحْثَاءً الترابَ: مٹی گرانا ـ الترابُ: مٹی کا گرنا، مجازًا کہا جاتا ہے حَثَا فی وجهه الرمادَ: اس نے اس کو شرمندہ و نادم کر دیا حَثَا فی وجهه الترابَ: وہ اس سے سبقت لے گیا اِسْتَحْثَوا: ایک دوسرے کے چہرے پر مٹی پھینکنا الحثاء والحَثَی: ڈالی ہوئی مٹی، بھوسے کے ریزے الحَثَی (مص) جمع حَثَیَات: مٹی وغیرہ کا لیپ المَحْثَوَاء: بہت مٹی والی زمین۔

حثی: دیکھو حثا۔

حَثَا ـُ حَثْوًا: کو بکھیرنا، چھڑکنا، پھیلا دینا، منتشر کرنا، پراگندہ کرنا۔

حج: احَجَّ ـُ حَجًّاہ: کا قصد کرنا، کہا جاتا ہے حَجَّ بنو فلان فلانًا: بنو فلاں نے فلاں کے پاس بہت آمد و رفت رکھی حججتُ فلانًا: میں فلاں کے پاس بار بار آیا گیا ـ الاماكنَ المقدسَّةَ: مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا صفت حَاجّ جمع حُجَّاج وحَجِیج و حُجّ مونث حَاجَّة جمع حَوَاجّ۔ ـ علیه: کے پاس آنا حَجَّجَ تَحْجِیجًا و أَحَجَّ اِحْجَاجًاہ: کو ادائیگی حج کے لئے بھیجنا اِحْتَجَّ البیتَ: بیت اللہ کی زیارت کرنا المحاج (فا): مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والا۔ اسم جمع ہے بمعنی الحُجَّاج: کہتے ہیں قدم الحاجُّ حتی المشاة: حاجی لوگ آپہنچے حتی کہ پیدل چلنے والے بھی الحِجَّة: سال ذو الحِجَّة: جمع ذوات الحِجَّة: قمری سال کا آخری مہینہ جو ذی القعدہ اور محرم کے مابین واقع ہے المَحَجّ: حج کرنے کی جگہ المَحَجَّة جمع مَحَاجّ: راستہ کا بیچ (درمیانی حصہ) المَحْجُوج: مطلوب، مقصود، حج کرنے کی جگہ۔

۲۔ حَجَّ ـُ حَجًّا عن الامر: کسی کام سے باز رہنا، رکنا،

۳۔ حَجَّ ـُ حَجًّاہ: پر دلیل میں غالب آنا حَاجَّ حِجَاجًا و مُحَاجَّةً ہ: سے جھگڑا کرنا اور اس پر غالب آنا تَحَاجًّا تَحَاجًّا: آپس میں جھگڑنا۔ اِحْتَجَّ: دعوی کرنا اپنے دعوی پر دلیل لانا ـ بالشیٔ: کو [illegible] ظاہر کرنا الحُجَّة جمع حُجَج و حِجَاج: دلیل، برہان، حجت عند العامة: کسی چیز کی رسید جو فروخت کی جائے المحِجَّة: حج کا اسم، حج کرنا۔ الحَجِیج: دلیل سے غالب آنے والا المِحْجَاج: بہت جھگڑالو المَحْجُوج: دلیل میں مغلوب ہونے والا۔

۴۔ حَجَّ ـُ حَجًّا الجرحَ: زخم میں سلائی ڈال کر ٹٹولنا۔ الحَجِیج: وہ شخص جس کا زخم سلائی ڈال کر ٹٹولا جائے۔ المِحْجَاج (طب): زخم ٹٹولنے کی سلائی۔

۵ المَحَجَّة: بالی، کان کی لو المِحَجَّة: کان کی لو۔ الحَجَاج جمع حُجُج و اَحِجَّة و حِجَاج: ابرو کی ہڈی حَجَاجُ الشمس: آفتاب کا کنارہ

۶ حَجْحَجَ: بولنے سے رکنا ـ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا ـ الرجلُ: پچھلے پاؤں لوٹنا۔

حَجَّ ـُ حَجًّاہ: پر دلائل، شہادت سے غالب آنا، یا اس کو دلائل سے شہادت سے شکست دینا، کو قائل کرنا، منوالینا، باور کرانا، یقین دلانا (مکہ) کی زیارت کرنا، (مکہ) کا حج کرنا حَاجَّ ہ: سے جھگڑنا، بحث کرنا، سے بحث میں اپنے نقطہ نگاہ پر زور دینا، کو قائل کرنے کی کوشش کرنا تحاجّا: ایک دوسرے کے خلاف دلیل دینا، استدلال کرنا، دلیل لانا، مباحثہ کرنا، کسی مسئلہ پر بحث یا مشورہ طلب کرنے کے لئے ملنا۔ اِحْتَجَّ ب: دلیل، عذر، اپیل وغیرہ کے طور پر کچھ پیش کرنا، تائید یا بیگناہی کے ثبوت کے طور پر کہنا یا بیان دینا کہ۔ عذر پیش کرنا ـ ل: کی براءت کرنا، کو بیگناہ ثابت کرنا، کا جواز پیش کرنا، کی توجیہ کرنا۔ علی: پر اعتراض کرنا، پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، کے خلاف احتجاج کرنا حَجّ و حِجَّة جمع حَجّات و حِجَج: حج، مکہ کا حج، زیارت ذو الحِجَّة: اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ حُجَّة: بحث، دلیل، بہانہ، عذر، معذرت، ثبوت، دستاویز، نوشتہ، تحریر، مستند ماخذ، مجاز، حاکم بِحُجَّةِ ان: کے بہانے، کی درخواست پر، کے عذر پر، کی حجت پر۔ حِجَاج جمع حِجَّة: مدار۔ مَحَجّ: (سفر کی) منزل مقصود مَحَجَّہ جمع مَحَاجّ: حج کرنے کی جگہ یا چیز مزار۔ (سفر کی) منزل مقصود، مقصد، راستہ، طریقہ، طریق کا محجة الصواب: صراط مستقیم، سیدھا راستہ مَحَجَّةُ الحدید: ریل، ریلوے، ریل کی پٹری حِجَاج: بحث، جھگڑا، تَحَاجُج: بحث مباحثہ، مناظرہ، بحث و استدلال، عذر پیش کرنا، بہانہ، عذر یا حیلہ پیش کرنا اِحْتِجَاج جمع احتجاجات: بحث و استدلال، مناظرہ، عذر، بہانہ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

-علی نَ کے خلاف احتجاج، گلہ، شکایت، پر اعتراض۔

حجا : حَجَا ـ حَجْوًا بالشي پر خوش ہونا۔ ــــ عنه الشيَ نے چیز کو روکنا۔ حَجِيَ ـ حَجًا و حَجًا و تَحَجًّا بالشي کا بخل کرنا، پر فریفتہ ہونا۔ الحَجِي: لائق، قابل، سزاوار (آپ کہتے ہیں: هو حَجِيٌ بکذا وہ فلاں چیز کے لائق ہے، اس کا اہل ہے)۔ پناہ لینے والا، آپ کہتے ہیں: هو حَجِيٌ اليهم وہ ان کے پاس پناہ لئے ہوئے ہے۔ المَحْجَا جائے پناہ۔

حجب ۱۔ حَجَبَ ـُ حَجْبًا و حِجَابًا و حَجَّبَ ہ کو چھپانا تَحَجَّبَ و اِحْتَجَبَ چھپنا، الحِجَاب جمع حُجُب پردہ، تعویز۔ (مو)۔ ستار کے آئینہ کو ڈھکنے والا جھومر تعویذ۔ حجاب الشمس سورج کی روشنی ــــ القلب دل اور پیٹ کے درمیان حائل ہونے والا پردہ۔ الحاجب جمع حَوَاجِب و حَوَاجِيب ابرو۔ حاجبُ الشمس سورج کا کنارہ، طلوع کے وقت سورج کا نظر آنے والا کنارہ۔ حَوَاجِبُ الشمس سورج کی شعاعیں۔ حاجِبَةُ الشمس: (ا ع): آنکھوں کو سورج کی شعاعوں سے بچانے والا سامان۔

۲۔ حَجَبَ ـُ حَجْبًا و حِجَابًا صدرُہٗ کا سینہ تنگ ہونا۔

۳۔ حَجَبَ ـُ حَجْبًا و حِجابًا ہ کو اندر آنے سے روکنا، کہا جاتا ہے: فلانٌ يحجب للأمِير: فلاں شخص حاکم کا دربان ہے۔ -بينهما دو چیزوں کے درمیان حائل ہونا۔ حَجَّبَ ہ کو اندر آنے سے روکنا۔ اِسْتَحْجَبَ ہ: کو دربان بنانا، حاجب مقرر کرنا۔ الحِجاب جمع حُجُب دو چیزوں میں حائل ہر چیز۔ الحاجِب جمع حُجَّاب و حَجَبَة: دربان۔ الحِجابَة دربان کا پیشہ۔ دربانی۔

۴۔ حَوَاجِبُ الشي چیز کا کنارہ۔ الحاجِبِيَّہ (ن) ایک قسم کا پودا جو معتدل ممالک میں بکثرت ہوتا ہے، اس کے پھول بڑی حد تک حشرات الارض جیسے شہد کی مکھی، مکھی وغیرہ سے مشابہ ہوتے ہیں۔

○ حَجَبَ ـُ حَجْبًا ہ علي کو سے چھپانا، کو سے ڈھکنا، کے آگے پردہ لگا دینا، کی آڑ میں کر دینا، کی سے حفاظت کرنا، کو سے الگ رکھنا، کو سے مخفی کرنا۔ ــــ ہ کو بے رونق یا ماند کرنا، سے آب و تاب میں بڑھ جانا، ــــ ہ عن: کو کیلئے ناقابل فہم بنانا، کو سے پوشیدہ رکھنا، کو سے چھپانا۔ ــــ بين ــــ و بين: کے درمیان جدائی ڈالنا۔ حَجَّبَ: چھپانا، نقاب اڑھانا۔ ــ ها: عورت کو پردہ کرانا۔ ــ ہ ب کو سے چھپانا، ڈھانپنا، تَحَجَّبَ عن سے چھپنا، ــــ نقاب اوڑھنا، منظر سے فرار ہو جانا۔ اِنْحَجَبَ نقاب اوڑھنا، برقع پہننا، چھپنا، ڈھکنا، چھپ جانا، مخفی ہونا، اِحتجب فجأةً غائب ہو جانا، فضا میں تحلیل ہو جانا، نظر نہ آنا، نظر سے غائب ہو جانا، نقاب اوڑھنا، پردہ کرنا، چھپنا۔ ــــ عن سے پوشیدہ ہو جانا، چھپ جانا۔ ــــ پیچھے ہٹنا، دیکھے جانے سے بچنا۔ (اخبار، رسالہ وغیرہ) بند ہو جانا، منقطع ہو جانا۔ حجب الگ تھلگ ہونا یا کرنا، چھپانا، حفاظت کرنا، پناہ دینا، دور رکھنا۔ حِجَاب جمع حُجُب و اَحْجِبَة نقاب، چادر، شال، لمبا پردہ پردہ، عورت کا نقاب، برقع، آڑ، اوٹ، پردہ، پارٹیشن (کمروں کے درمیان پتلی دیوار)، فولڈنگ سکرین، ناکہ، روک، ڈایافرام Diaphragm، تعویذ، حاجب جمع حُجَّاب و حجبة دربان، حاجب، اردلی، چپڑاسی، حاجب الهواء: سربند، بند منہ کا، ہوابند حاجب: چھپانے والا، حفاظت کرنے والا، آڑ میں کرنے والا۔

حجر ۱۔ حَجَرَ ـُ ہ حَجْرًا و حَجْرَانًا (بتثلیث الحاء فی المصدرین): کو روکنا ـ عليه القاضيُ: قاضی کا کسی کو اپنے مالی تصرفات سے روک دینا۔ حَجْرًا و مَحْجَرًا عليه الامرَ: پر کوئی امر حرام کرنا، ناجائز ٹھہرانا۔ تَحَجَّرَ علی فلان: کو محروم کرنا، کو تنگ کرنا، کہا جاتا ہے۔ تَحَجَّر ما وسّعه اللّٰهُ: جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخی دی تھی اس کو اپنی جان کیلئے تنگ کر لیا۔ اِحْتَجَرَ الشيءَ: کو اپنی گود میں رکھنا، لینا، ــــ به کی پناہ لینا۔ الحُجْر ممانعت، دفع رکاوٹ، کہا جاتا ہے۔ حُجْرًا له وہ دفع ہو۔ حُجْرتا العسكر (ا ع): لشکر کے بازو، میمنہ، میسرہ۔ الحَجْر (مص): مطلقاً رکاوٹ۔ ــــ و الحُجْر و الحِجْر جرام (کہا جاتا ہے: هذا حجرٌ عليك یہ تم پر حرام ہے)۔ گود کہا جاتا ہے: نشأ فلان في حجر فلان: فلاں فلاں کی گود یا حفاظت میں پلا بڑھا۔ الحِجر جمع حُجُور و حُجُورَة و اَحْجار: عقل، گھوڑی، أَحْجَارُ الخيل: وہ عمدہ گھوڑے جو نسل بڑھانے کے لئے رکھے جائیں۔ (مفرد غیر مستعمل ہے) الحَاجِر (فا): صحراء میں حاجیوں کے اترنے کی جگہ ــــ و الحاجُور: پانی کو روکنے والا دریا کا پشتہ۔ المَحْجَر: حفاظت کی جگہ۔ اسی سے ہے۔ المحجر الصحيّ: وہ جگہ جہاں وبائی امراض میں مبتلا لوگ حفاظت و نگرانی میں رکھے جاتے ہیں تا کہ دوسرے تندرست لوگ وبا کا شکار نہ ہوں۔ گاؤں کا ارد گرد جیسے باغ جا[illegible] المَحْجِر [illegible] جمع مُحَاجِر باغیچہ۔

۲۔ حَجَّرَ الطينُ: مٹی کا سخت اور پتھر کے مانند ہونا۔ تَحَجَّرَ و إسْتَحْجَرَ: پتھر جیسا ہونا۔ الحَجَر جمع اَحْجَار و حِجَار و حجارة و أَحْجُرُ: پتھر، کہا جاتا ہے: اَلْقَمَهُ الحَجَر: اس نے اسے مسکت اور دندان شکن جواب سے خاموش کر دیا۔ کہا جاتا ہے۔ اهل الحَجَر و المَدَر دیہاتی لوگ الحَجَران چاندی اور سونا الحَجِر و الحَجِير بہت پتھروں والی جگہ۔

۳۔ حَجَّرَ القمرُ چاند کا ہالہ والا ہونا۔ أَحْجَرَہ: کو ڈھانپنا، چھپانا، اِحْتَجَر حجرہ بنانا۔ تَحَجَّرَ و اِسْتَحْجَرَ الرجلُ: حجرہ بنانا۔ الحَجَر من العين: آنکھ کا خانہ الحُجْر ناخن کے گرد کا گوشت۔ المَحْجَر و المِحْجَر جمع مَحَاجِر من العين: آنکھ کا خانہ۔ الحُجْرة جمع حُجَر و حُجُرَات و حُجَرَات و حُجْرَات: کمرہ۔

۴۔ اِسْتَحْجَرَ عليه کی جرأت کرنا۔

۵۔ الحاجز جمع حُجْران بلند زمین جس کا درمیانی حصہ نشیبی ہو۔ الحُجْرَة جمع حُجَر و حُجُرات و حُجَرَات و حُجْرَات: کنارہ، الحَجْرة جمع حَجْر و حَجَرات و حَوَاجِر: کنارہ، کہا جاتا ہے۔ إنتَشَرَتْ حَجْرتُه اس کا مال بہت ہو گیا۔

○ حَجَرَ ـُ حَجْرًا و حِجْرًا و حُجْرًا و حِجْرانًا و حُجْرانًا علی: کو تک رسائی نہ کرنے دینا۔ ہ / علی: کو روکنا، باز رکھنا، کی راہ میں حائل ہونا، ــــ ہ علی: کی پر ممانعت کرنا، سے کو محروم کرنا۔ ــــ علی ہ کو کچھ کرنے سے روکنا، منع کرنا۔ ــــ علی کو زیر سرپرستی رکھنا، کو قانونی طور پر نا اہل قرار دینا، حَجْر: پابندی، روک تھام، باز رکھنا، روک، رکاوٹ، تعرض، سدِ راہ ہونا، حائل ہونا، بندش، (ــ علی: کو مختصر کرنا، کم کرنا) روکنا، بند کرنا، محروم کرنا، اخراج، ممانعت، گوشہ نشینی، حدود کے اندر رکھنا۔ روک رکھنا، احتیاطی بندش، امتناع، تنسیخ، استرداد، ــ علی: کسی شخص کی قانونی اہلیت کی تنسیخ یا حد بندی (بندش) حجر صحی: قرنطینہ (امراض وبائی کے لئے جبری قیام) طبی قید، حِجر: رکا ہوا، منع کیا ہوا، باز رکھا ہوا، ممنوع قرار دیا ہوا، گود، آغوش، دامن (جمع اَحْجار و حُجُور و حُجُورَة): گھوڑی، حُجْرَة جمع حُجَرات: کمرہ، سیل (Cell) (ریل گاڑی کا) کمپارٹمنٹ، کوٹھڑی، چوبارہ، خوابگاہ، حجرہ، ایوان۔ حُجْرَةَ الانتظار: انتظارگاہ، حجرةُ النوم بیڈروم، خوابگاہ۔ الحجرة الفلاحية: ایوان زراعت۔ مَحْجَر جمع مَحَاجِر:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فوجی، ہسپتال، بیماروں کے رہنے کی عمارت۔ جیل، قید خانہ کال کوٹھری مَحْجَرٌ صحیٌّ: قرنطینہ، قرنطینہ کا مرکز۔ مَحْجِر و مِحْجَر و مَحْجَر جمع مَحَاجِر و محجر العین: حلقہ چشم۔ تحجیر: ممانعت، پابندی، امتناع مَحْجُور جمع مَحَاجِیر (اور مَحْجُور علیہ): زیر سرپرستی رکھا ہوا، نابالغ، صغیر سن، وارڈ نگرانی۔ حَجَّر ہ: کو پتھر بنا دینا، پتھر میں تبدیل کر دینا، کو پتھر جیسا سخت کر دینا۔ تَحَجَّرَ: پتھر میں تبدیل ہو جانا، پتھر ہو جانا۔ حَجَر جمع أَحْجَار و حِجَارَة و حِجَار: پتھر۔ وزن۔ الحجر الاساسیّ: بنیادی پتھر۔ بنیادی چیز۔ نیو کی اینٹ، وضع الحجر الاساسی: نیو کی اینٹ رکھنا۔ حجر البَلَاط: پتھر کی سل، فرش کا پتھر حجر جہنم: قمری تیزاب، شورے کا تیزاب۔ حجر الجیر: چونے کا پتھر۔ الحجر السُّمَّاقی یا حجر السُّمَّاقی: ایک قسم کی سخت سرخ چٹان جو سرخ و سفید بلوروں پر مشتمل ہوتی ہے اور انہیں صیقل کر کے زیورات بنائے جا سکتے ہیں۔ الحجر الأسود: (کعبہ کا) سیاہ پتھر۔ حجر العَثْرَة: رکاوٹ، سنگ راہ، حجر القمر: کہربائی، حجر کریم اور حجر ثمین: قیمتی پتھر، گوہر طبع علی الحجر: پتھر کا چھاپا، پتھر پر لکھ کر چھاپنا، طباعة الحجر: پتھر کی چھپائی یا طباعت۔ حَجَری: پتھر کا، پتھر کے متعلق۔ العصر الحجری: پتھر کا زمانہ۔ العصر الحجری الحدیث: پتھر کے زمانہ کا آخری دور۔ العصر الحجری القدیم: پتھر کے زمانہ کا قدیم دور حَجِر: پتھریلا، پتھر بنا ہوا۔ حَجَّار: پتھروں سے عمارت بنانے والا، معمار، پتھر کاٹنے والا۔ مَحْجَر جمع مَحَاجِر: پتھر کی کان۔ تحجیر: پتھر کر دینا، کان سے پتھر نکالنا۔ تَحَجُّر: پتھر ہو جانا مُتَحَجِّر: پتھر بنا ہوا، مُسْتَحْجِر: پتھر بنا ہوا۔

حجز: ۱۔ حَجَزَ ـُ حَجْزًا و حِجَازَة بینهما: کے درمیان میں آنا، فاصلہ کرنا۔ ہ: کو منع کرنا، روکنا، دور کرنا۔ علیہ المالَ و العقارَ: کے مال یا جائیداد کو دعوی کی بنا پر روک لینا۔ حَاجَزَہ: ایک دوسرے کو منع کرنا۔ أَحْجَزَ و اِنْحَجَزَ: ملک حجاز میں آنا۔ تَحَاجَزُوا: ایک دوسرے کو منع کرنا، روکنا، دفع کرنا۔ اِنْحَجَزَ: رکنا۔ اس کی مثال یہ ہے: حَجَزَہ فانحجز: اس نے اس کو روکا تو وہ رک گیا۔ احتجز بہ: سے محفوظ ہونا، باز رہنا۔ الرجلُ: ملک حجاز میں آنا۔ الحجز: پاک دامن، پاک۔ و الحُجْز: قبیلہ۔ الحَاجِز جمع حَجَزَة: روکنے اور حائل ہونے والا۔ تلوار کی دھار، برزخ، رکاوٹ۔ النارِی (اع): بموں کی باڑھ، گولیوں کی باڑھ۔ الحراری: ہوائی جہاز کی ہوائی طبقوں سے رگڑ سے پیدا ہونے والی گرمی یا حرارت۔ الحِجاز: جزیرہ عرب میں معروف ملک جو تہامہ اور نجد کے درمیان حائل ہے۔

(مو): گانے کا ایک سُر۔

۲۔ اِحْتَجَزَ الشَّيءُ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا،

۳۔ اِحْتَجَزَ الشَّيءَ: کو گود میں اٹھانا اور گھیرنا۔ بالإزار: ازار کمر پر باندھنا۔ الحُجْزَة جمع حُجَز و حُجُزَات و حُجَزَات و حُجْزَات: آزار باندھنے کی جگہ، نیفہ۔ فی المجاز: کسی شئے کو تھامے رہنا، تمسک، کہا جاتا ہے فلانٌ طیب الحُجْزَة: فلاں پاکدامن ہے۔ شدید الحجزة: بڑا صابر۔ هذا كلام آخذ بعضه بِحُجَزِ بعض: اس کلام کا ایک حصہ دوسرے حصہ سے مربوط و منسلک ہے۔ الحِجاز: کمر بند۔ اونٹ کو باندھنے کی رسی۔ المُحْتَجَز: آزار باندھنے کی جگہ۔

۴۔ الحَجْز و الحُجُز: اصل، کنارہ۔ الحاجِز جمع حَجَزَة ظالم۔

○ حَجَزَ ـُ حَجْزًا ہ عن: کو سے روکے رکھنا، کو سے منع کرنا، روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو سے روک رکھنا، باز رکھنا۔ بین: دو چیزوں کو الگ کرنا۔ ہ / علی: کو ضبط کرنا، کو الگ کرنا، علیحدہ کرنا، کو قرق کرنا، باڑے میں بند کرنا، پر قبضہ کرنا، کو زبردستی لے لینا۔ ہ: کو بحق سرکار ضبط کرنا، کی حفاظت کرنا، کو ریزرو کرنا، (جیسے نشست ریزرو کرنا)۔ بلاک کرنا، بند کرنا، روکنا، منفصل کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا، الگ تھلگ کرنا، گرفتار کرنا، نظر بند کرنا، قید کرنا، حد کے اندر رکھنا، الگ رکھنا، تنہائی میں رکھنا، ناقابل گزر بنانا، ناقابل رسائی بنانا، پہنچ سے باہر رکھنا، ناقابل حصول بنانا۔ حَجْز: قابو میں رکھنا، روکنا، پابندی، قید، قید و بند، الگ تھلگ کرنا، حدود کے اندر رکھنا، تنہائی، علیحدگی، جدائی، گرفتاری، نظر بندی، گرفت، ضبطی، قرقی (سیٹوں کی) ریزرویشن۔ علی: کی ضبطی، قرقی حجز الحریّة: آزادی کی موقوفی، غیر قانونی گرفتاری، قید، حراست یا روک، ناجائز تشدد، سختی، جبر، حبس، جبر اکراہ، القی الحجز علی: کو بحق سرکار ضبط کر لینا۔ الحِجاز: حجاز، مغربی عرب بحر قلزم کے ساحل پر واقعہ علاقہ۔ حِجازی: حجاز کے متعلق (جمع حجازیون) حجاز کا باشندہ حاجز جمع حواجز: رکاوٹ، روک، اڑچن، سد راہ ہونا، درمیانی دیوار، اوٹ، آڑ، ٹٹی، پردہ، چلمن، بلاک، ناکہ بندی، روڈ بلاک، جنگلا، تار کا احاطہ، فصیل، پھاٹک، باڑ، کٹھرا، جنگلے یا کٹھرے کے چھوٹے ستونوں کا سلسلہ، کچا پشتہ، عارضی روک، کچی مورچہ بندی۔ الحجاب الحاجز: ڈایافرام Diaphragm پردہ یا جھلی۔ پردہ شکم، اعضائے رئیسہ اور معدہ کے بیچ کا پردہ۔ حاجزُ الأمواج: لہر توڑ۔ بند۔ پشتہ (لہروں کو روکنے اور ان کا زور توڑنے کیلئے) الحواجز القُمْرُقِيَّة (الجُمْرُكية): کسٹمز کی رکاوٹیں۔ حاجزة الصواعق: برق ربا (lightning rod) مُوَظَّفٌ حاجز: قرقی والا، بیلف bailiff۔

حجف: حَاجَفَ مُحَاجَفَةً ہ: کا مقابلہ کرنا، کو ہٹانا، اِنْحَجَفَ: التجا کرنا، زاری کرنا۔ اِحْتَجَفَ ہ: کو چننا، منتخب کرنا۔ الشيءَ: کو قبضہ میں لینا، حاصل کرنا۔ نفسه عن كذا: خود کو سے ہٹانا، باز رکھنا۔ الحَجَفَة جمع حَجَف: لکڑی کے بغیر چمڑے کی بنی ہوئی ڈھال۔ سینہ۔ الحَجِيف: پیٹ کی گڑگڑاہٹ۔

○ مُحاجَفَة: یک ٹہنی باڑ۔ اِحجاف بمعنی اجحاف۔

حجل: ۱۔ حَجَلَ ـُ حُجُولًا و حَوْجَلَ و حَجَّلَت العینُ: آنکھ کا اندر کو دھنس جانا۔

۲۔ حَجَلَ ـِ حَجْلًا و حَجَلانًا: ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پر چلنا۔

۳۔ حَجَلَ ـُ حَجْلًا و حَجَلانًا البعیرَ: اونٹ کو باندھنا۔ المُقَيَّدُ: مقید کا دونوں پاؤں سے کودنا۔ حَجَّلَ المُقَيَّدُ: مقید کا دونوں پاؤں سے کودنا۔ الحَجْل و الحِجْل و الحِجِل جمع أَحْجال و حُجُول: بیڑی۔

۴۔ حُجِلَ حَجْلًا بینهما: دونوں کے درمیان حائل ہونا۔

۵۔ حَجَّلَ الرجلُ امرَہ: اپنے کام کو مشہور کرنا۔ المُحَجَّل: مشہور، کہا جاتا ہے۔ امرٌ اغرُّ مُحَجَّل: بہت مشہور بات۔

۶۔ حَجَّلَ العروس: دلہن کے لئے کمرہ آراستہ کرنا، دلہن کو آراستہ کمرہ میں داخل کرنا۔ الحَجَلة جمع حجال و حَجَل: مکان کے اندر دلہن کے لئے ڈالا ہوا پردہ، دلہن کے لئے آراستہ کیا ہوا کمرا۔ ربّات الحِجَال: عورتیں، عرب کہتے ہیں: الحُجُول لربّات الحجال: پازیب عورتوں کے لئے ہے۔

۷۔ حَجَّلَت المرأةُ بنانَها: عورت کا مہندی لگانا۔

۸۔ حُجِّلَت المرأةُ: عورت کو پازیب پہنایا جانا۔ الحَجْل و الحِجْل و الحِجِل جمع أَحْجال و

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حُجُول: پازیب۔

۹۔ حُجِلَ و تَحَجَّلَ الفرسُ: گھوڑے کا سفید ٹانگوں والا ہونا۔ صفت مُحَجَّل و مَحْجُول: اگر تین ٹانگوں سے سفید ہو تو وہ حَجِیل کہلاتا ہے۔ الحَجْل و الحِجْل و الحِجِل جمع اَحْجَال و حُجُول و التحجِیل: گھوڑے کے ٹانگ میں سفیدی المُحَجَّل من الخیل: سفید ٹانگوں والا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ یوم مُحَجَّل: مسرت وخوشی سے روشن دن۔

۱۰۔ الحَجَل واحد حَجَلَة جمع حِجْلان و حَجْلَی (ح): چکور۔ الحَوْجَلَة و الحَوْجَلَّة جمع حَوَاجِل و حَوَاجِیل: شیشی۔ الحُجَیْلاء: پانی جس پر دھوپ نہ پڑتی ہو۔

○ حَجَلَ ـِ حَجْلًا و حَجَلانًا: اچھلنا، کودنا، چھلانگ لگانا، اچھل کر کود جانا، ایک پاؤں پر کودنا، جانور کا کودنا، اچکنا، رسی سے کودنا، اچھل کود کرنا۔ حَجْل و حِجِل جمع حُجُول و اَحْجَال: پائل، پازیب، حَجَل: اسم جنس واحد حَجَلَة جمع حِجْلان و حِجْلَی: تیتر، دراج، چکور، پہاڑی تیتر یا چکور، پہاڑی بٹیر، لوا، بھٹ تیتر، حَجَلَة جمع حِجال: پردہ والا چھتر یا خوابگاہ (دلہن کے لئے)۔ لعبَة الحَجَلة: بچوں کا کھیل جس میں ایک پاؤں پر چل کر ٹھیکری کو آگے بڑھاتے ہیں۔

• مُحَجَّل: (عورت) جس نے پازیب پہنے ہوں سفید ٹانگوں والا (گھوڑا)، چمکدار، روشن، تاباں، تابندہ، فروزاں، بیمثال، منفرد، یکتا، غیر معمولی (خصوصاً اغر محجل کے جزو جملہ میں)۔

حجم: ۱۔ حَجَمَ ـِ حَجْمًا الحَجَّامُ المریضَ: حجام کا بیمار کے پچھنے لگانا۔ اِحْتَجَمَ: پچھنے لگوانا۔ الحَاجِم جمع حُجَّام و حَجَمَة و الحَجَّام: پچھنے لگانے والا۔ الحِجَامَة: پچھنے لگانا۔ المِحْجَم و المِحْجَمَة جمع مَحَاجِم: پچھنے لگانے کا اوزار، سینگی۔ المَحْجَم جمع مَحَاجِم: جسم میں پچھنے لگانے کی جگہ۔

۲۔ حَجَمَ ـُ حَجْمًا ه عن الشیٔ: کو سے روکنا، باز رکھنا۔ ـ البَعِیرَ: اونٹ کے منہ پر جالی چڑھانا جب وہ جوش میں آئے۔ ـ طرفَهُ عنه: کی طرف سے نگاہ پھیر لینا۔ اَحْجَمَ عن الشیٔ: سے رکنا، ڈر کر سے پیچھے ہٹنا۔ الحِجام: اونٹ کے منہ پر لگانے کی جالی تا کہ وہ کاٹ نہ سکے۔ المِحجام: خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنے والا۔

۳۔ حَجَمَ ـِ حَجَمَاتِ الحیَّةُ: سانپ کا ڈسنا۔

۴۔ حَجَمَ ـِ حَجْمًا الصبیُّ ثدیَ اُمِّهٖ: بچہ کا اپنی ماں کی چھاتی کو چوسنا۔ احجمت المراۃُ للمولود: ماں کا بچے کو پہلی دفعہ دودھ پلانا۔

۵۔ حَجَمَ ـُ حَجْمًا و احجمَ الثدیُ: پستان کا ابھرنا، بلند ہونا۔ الحَجْم (مص) جمع حُجُوم: جسم کی مقدار۔ وہ ابھار جو ہاتھ کے پھیرنے سے معلوم ہو۔ المَحْجُوم: جسیم۔

○ اَحْجَمَ عن: سے ڈر کر پیچھے ہٹنا، دیکھنا، دبنا، سے باز رہنا، رکنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، کو نہ کرنا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، حَجْم جمع حُجُوم و اَحْجَام: زیادہ مقدار حجم، سائز، توپ کے اندرونی قطر کی نالی۔ کبیرُ الحجم: ضخیم، کافی بڑا، حَجَّام: سینگی لگانے والا، پچھنے لگانے والا۔ حِجَامَة: سینگی لگانا، پچھنے لگانا۔ سینگی یا پچھنے لگانے کا فن، پچھنا۔ مِحْجَم و مِحْجَمَة جمع مَحَاجِم: سینگی۔ اِحْجَام: باز رہنا، احتراز کرنا، پابندی، علیحدگی، کم آمیزی، پیچھے رہنا، الگ تھلگ رہنا۔

حجن: ۱۔ حَجَنَ ـُ حَجْنًا العودَ: لکڑی کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا۔ ـــ و اِحْتَجَنَ الشیٔ: کو کانٹے سے کھینچنا۔ حَجَّنَ العودَ: لکڑی کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا۔ تَحَجَّنَ العودُ: لکڑی کا مڑنا، ٹیڑھا ہونا۔ الحَجَن و الحُجْنَة: ٹیڑھاپن، کجی۔ الاَحْجَن مونث حَجْنَاء جمع حُجْن: ٹیڑھا، کہا جاتا ہے: صقر احجنُ المُخالِب: ٹیڑھے چنگل والا شکرا۔ المِحْجَن و المِحْجَنة: ٹیڑھے سر کا ڈنڈا۔ کھونٹی پر مڑے ہوئے سر والی چیز مِحْجَنُ الطائر: چونچ (پرندہ کی)۔

۲۔ حَجِنَ ـَ حَجَنًا بالدارِ: گھر میں اقامت کرنا۔

۳۔ حَجِنَ ـَ حَجَنًا علیه وبه: سے کنجوسی کرنا، بخل کرنا۔ اِحْتَجَنَ المالَ: مال کو اکٹھا کرنا، پراگندہ مال کو اکٹھا کر کے درست کرنا۔ اِحْتَجَنَ علیه: کو روکنا۔ الحُجْنَة: جمع کی ہوئی اور مخصوص کی ہوئی چیز۔ مِحْجَنُ مالٍ: اونٹوں کا اچھا منتظم۔

۴۔ الحَجُون: سست، کاہل، کہتے ہیں، سرنا عقبةً حَجُونًا: ہم مسافت والی گھاٹی پر چلے۔

○ حَجَنَ ـِ حَجْنًا ه: کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا، اِحْتَجَنَ ه: کو چھیننا، جھپٹنا، پر جھپٹا مارنا، ہاتھ مارنا، کو ہتھیانا، ہتھیانا، زبردستی چھیننا، اَحْجَن: ٹیڑھا، مڑا ہوا۔ مِحْجَن جمع مَحَاجِن: لاٹھی جس کا سرا مڑا ہوا ہو، لاٹ پادری کا عصا، کانٹا، آنکڑا، کھونٹی، درانتی، ہک۔

حجا: ۱۔ حَجَا ـُ حَجْوًا: ٹھہرنا۔

۲۔ حَجَا ـُ حَجْوًا [illegible] کا قصد کرنا [illegible] بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ حَجِیَ ـَ حَجًی به: سے وابستہ رہنا، پر فریفتہ ہونا۔ تَحَجَّی به: پر فریفتہ ہو کر اس سے وابستہ رہنا۔ ـــ الشیٔ: کو ارادۃً کرنا۔ ـ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے تحجَّیتکم اِلی هذا المکان: میں اس جگہ تک پہنچنے میں تم سے آگے رہا اور تم سے پہلے وہاں جم گیا۔ الحَجَا جمع اَحْجَاء: پناہ گاہ۔ پناہ کی جگہ۔

۳۔ حَجَا ـُ حَجْوًا السِرَّ: بھید کی حفاظت کرنا۔ بالشیٔ: کی کنجوسی کرنا، بخل کرنا۔ ـ ہ: کو روکنا، منع کرنا۔ اِحْتَجَی الشیٔ: کو چھپانا۔

۴۔ حَجَا ـُ حَجْوًا به خیرًا: کے بارے میں اچھا خیال کرنا۔ ـــ الامرَ: کا محض گمان پر دعوی کرنا اور یقین نہ رکھنا۔ حَاجَی مُحَاجَاةً ہ: کو پہیلیاں پیش کرنا۔ پر سمجھ یا عقل میں غالب آنا۔ تَحَاجَوا: آپس میں پہیلیوں کا تبادلہ کرنا ایک دوسرے سے پہیلیاں بیان کرنا۔ ـــ الحِجَی جمع اَحْجَاء: عقل، سمجھ، کہا جاتا ہے۔ حَاجیتُهُ فَحَجَوْتُهُ: میں نے اس سے عقل وسمجھ میں مقابلہ کیا اور غالب آیا۔ الاُحْجِیَّة جمع اَحَاجِیّ و اَحَاجٍ: پہیلی، چیستان۔ الأَحَاجِیَ: معمی، پیچیدہ بات۔ کلمة مُحْجِیَة و مَحْجِیَّة: کلمہ جس کے الفاظ ظاہری معنی کے مخالف ہوں۔

۵۔ حجا ـُ القومَ: کو بدلہ دینا۔

۶۔ اَحْجَی اِحْجَاءً ہ بکذا: کو کا اہل، لائق بنانا کہا جاتا ہے۔ ما اَحْجَاهُ بکذا: وہ اس کا کس قدر لائق و سزاوار ہے۔ الحَجِی و الحَجِیّ: مستحق، لائق، مَحْجَاة: لائق، سزاوار۔ کہا جاتا ہے۔ انه لَمَحجاة أن یفعل کذا: وہ ایسا کرنے کا مستحق ہے۔ وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ ایسا کرے۔

۷۔ الحجا جمع اَحْجَاء: زمین کا ابھرا ہوا اٹھا ہوا حصہ۔ وادی کا موڑ۔ حجا الشیٔ: چیز کا کنارہ الحجا جمع اَحْجَاء: کنارہ، گوشہ۔ الحَجَاة جمع حَجًا: بارش کے قطروں سے پیدا ہونے والا بلبلہ۔

حجی: دیکھو حجا

○ حجا به خیراً: کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ حَاجَی ہ: کو پہیلی پیش کرنا، سے پہیلیوں میں بات کرنا، رمز آمیز ہونا، پیچیدہ ہونا۔ حِجی و حجا جمع اَحْجَاء: سمجھ، ذہانت، عقل، فہم، فراست، دماغ، نکتہ رسی، بصیرت، ادراک، فہم، زیرکی، ذکا، دقیقہ رسی، ہوشمندی، حَجِیّ ب: کے لئے مناسب، موزوں، کے شایاں۔ اَحْجَی: زیادہ مناسب، زیادہ موزوں،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

زیادہ درست، زیادہ صحیح، بہتر۔ اُحْجِیَة جمع اَحَاجِی واَحَاج: پہیلی، چیستان، معما، عقدہ۔

حدّ: ۱۔ حَدَّ ـُ حَدًّا و حَدَدًا الدارَ: گھر کیلئے حد مقرر کرنا۔ ـ الشيءَ عن الشيءِ: چیز کو چیز سے جدا کرنا، ممیز کرنا۔ حَدَّدَ الارضَ: زمین کی حدود قائم کرنا۔ ـ الامرَ: کو معلوم کرانا۔ کی تعریف کرنا۔ حادیت ارضه ارضی: اس کی زمین میری زمین کے متصل ہے۔ الحَدّ (مص) جمع حُدُود: دو چیزوں کے درمیان کی روک (آپ کہتے ہیں دارُهُ حدُّ داری: اس کا گھر میرے گھر کے پڑوس میں ہے) چیز کی انتہا۔ حدّ الشيء: کسی چیز کی جامع ومانع تعریف۔ الحَدِید: پڑوسی۔ کہا جاتا ہے۔ هو حدیدی: وہ میرا پڑوسی ہے۔ داری حدیدةُ داره: میرا گھر اس کے پڑوس میں ہے۔ المحدود: حدود مقرر کردہ۔

۲۔ حَدَّ ـُ حَدًّا و حَدَدًا، اللّٰهُ عَنَّا الشرَّ: اللہ نے برائی کو روک کر ہم سے دور کر دیا۔ ـ المذنبَ: گنہگار پر حد لگانا، اس کو عبرتناک سزا دینا۔ الحَدّ جمع حُدُود: سزا۔ الحَدَد (مص): ممنوع کہا جاتا ہے۔ هذا امرٌ حَدَدٌ: یہ کام ممنوع ہے اس کو کرنا جائز نہیں۔ دونَ هذا حَدَدٌ: اس کے ورے ممانعت ہے۔ هذا خبر حَدَدٌ: یہ خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ حَدَدًا ان یکون هذا: خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ حدودُ اللّٰه: اللہ کی اطاعت اور شرعی احکام۔ المَحْدُود: خیر یا شر سے روکا ہوا۔ محروم۔ الحَدّاد: دربان، یا داروغہ جیل۔

۳۔ حَدَّ ـُ حَدًّا وحَدَّدَ و اَحَدَّ السکینَ: چھری کو تیز کرنا۔ حَدَّ ـِ حِدَّةً و احْتَدَّت السکینُ: چھری کا تیز ہونا۔ اِسْتَحَدَّ: دھار تیز کرنا۔ الحَدُّ من السیف: تلوار کی دھار۔ الحُدَاد جمع اَحِدَّة: قاطع، کہا جاتا ہے۔ سکین حُدَاد: تیز کاٹنے والی چھری۔ الحَدِید جمع حِدَّاء و حِدَاد: تیز کاٹنے والا۔ کہا جاتا ہے سیف حَدِیدٌ: تیز کاٹنے والی تلوار۔ شمشیر براں (ك): لوہا۔ سخت لوہا مذکر اور نرم مونث کہلاتا ہے۔ الحَدِیدَة جمع حَدَائِد و حَدِیدَات و جمع الجمع حَدَائِدَات: لوہے کا ٹکڑا۔ حَدِیدَة الحرث: ہل کی پھالی، ہل کا پھل۔ الحَدَّاد: لوہار۔ لوہا بیچنے والا۔ الحِدَادة: لوہار کا پیشہ۔

۴۔ حَدَّ ـِ حَدًّا و حَدَدًا و حِدَّةً علیه: پر غصہ ہونا، غضبناک ہونا۔ حَدَّدَ علیه: پر غصہ ہونا، غضبناک ہونا۔ حَادَّہ: سے دشمنی رکھنا پر غضبناک ہونا۔ تَحَادًّا: ایک دوسرے سے ناراض ہونا، باہم غضبناک ہونا، احْتَدَّ: قوی ہونا، شدید ہونا، سخت ہونا۔ ـ علیه: پر غصہ ہونا، غضبناک ہونا۔ الحَدُّ من الانسان: انسان پر طاری ہونے والی غضبناکی کی کیفیت، شجاعت قوت۔ ـ من الشراب: شراب کا جوش۔ ـ من کل شيء: تیزی۔ الحُدّاد جمع اَحِدَّة: تیزی والا۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ حُدَادٌ: تیزی والا آدمی۔ رجلٌ حدید: تیز فہم یا تیز مزاج آدمی۔

۵۔ حَدَّ ـُ حَدًّا و حِدادًا: میت پر سوگ میں سیاہ کپڑے پہننا۔ ـ ت المراةُ: عورت کا اپنے شوہر کی موت پر زیب و زینت ترک کر کے سیاہ کپڑے پہننا۔ سوگ منانا، صفت حَادّ جمع حَوَادّ: اَحَدَّت المراةُ: عورت کا خاوند کے غم میں سوگ منانا صفت مُحِدّ و مُحِدَّة، الحِداد: سیاہ ماتمی لباس۔ ہم کہتے ہیں لَبِس الحِدادَ: اس نے سیاہ ماتمی لباس پہنا۔ ترك الحداد: اس نے سیاہ ماتمی لباس ترک کر دیا۔

۶۔ حَدَّدَ الیه وله: کا قصد کرنا۔ الحُدَاد: انتہائی حد، کوشش، کہا جاتا ہے۔ حُدَادُك اَن تفعل كذا: تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ ایسا کرو۔

۷۔ حَدَّدَ الزرعُ: بارش کی تاخیر کی وجہ سے کھیتی کا دیر سے اگنا۔

۸۔ اَحَدَّ الیه النظرَ: کو تیز نظر سے دیکھنا۔ گھورنا۔ الحادّ: تیز۔ ہم کہتے ہیں نظرٌ حادّ: تیز نظر۔

۹۔ تَحَدَّدَ بهم: کو مشتعل کرنا، سے جھگڑا کرنا، دنگا کرنا۔

○ حَدَّ ـُ حَدًّا ہ: (چاقو) تیز کرنا، سان پر لگانا۔ ـ ہ من: کی سے حد یا سرحد مقرر کرنا، حد بندی کرنا، کا سے نقشہ کھینچنا، کی سے حدود کا تعین کرنا، کو سے جدا کرنا، یا الگ کرنا، کی سے حد باندھنا، کو کھمبوں کی باڑ لگا کر الگ کرنا۔ ـ ہ: کی حد لگانا، کی حد کا کام دینا، کو حد کے اندر رکھنا، تنگ محدود رکھنا، کو حد کے اندر رکھنا۔ ـ ہ/ من: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو قابو میں رکھنا، کو روکے رکھنا۔ حَدَّ ـِ حِدَّةً علی: پر طیش میں آنا، پر غصے ہونا، ناراض ہونا، ـ ـُ حِدادًا علی: کا ماتم کرنا، افسوس کرنا، سوگ منانا، کے ماتم میں سیاہ پوش ہونا، کے مرنے پر ماتمی لباس پہننا۔ حَدَّدَ ہ: (چاقو وغیرہ) تیز کرنا، کو سان پر لگانا۔ (گرم لوہے کو) پیٹ کر کچھ بنانا، کی حد یا سرحد مقرر کرنا، کی حد بندی کرنا، کی حدود کا تعین کرنا، کی حد لگانا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کی تحدید کرنا، کو سختی سے جدا کرنا، الگ کرنا، کی حد باندھنا، کا خاکہ بنانا، نقشہ کھینچنا، ـ ہ/ من: کی حد کا کام دینا، کو گھٹا کر کم کرنا، محدود کرنا، کو حد کے اندر رکھنا، محدود رکھنا، کو حد [illegible] کو مقرر کرنا، معین [illegible]

جدول بنانا، کا گوشوارہ تیار کرنا، کا فہرست میں اندراج کرنا۔ (قیمت) مقرر کرنا (کی) تعریف کرنا، کا معین معنی بیان کرنا، واضح کرنا، معین کرنا۔ حَدَّدَ بصرہ: اچانک تیز نظر ڈالنا۔ ـ فی: کی جانچ پڑتال کرنا، کو تیز نظروں سے دیکھنا۔ حَادَّہ/ہ: کی مخالفت کرنا، کے خلاف کرنا، کو توڑنا، کا دفعیہ کرنا، کیخلاف ورزی کرنا، کی بے ادبی کرنا، یا بے حرمتی کرنا۔ اَحَدَّ ہ: کو تیز کرنا۔ اَحَدَّ النظر الی: کی طرف تیز نظر سے دیکھنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ اَحَدَّ بَصَرَہُ: تیز نظر دوڑانا۔ ـ فی: کی جانچ پڑتال کرنا کی طرف تیز نظر سے دیکھنا۔ احدّ من بصرہ: تیزی سے اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، چھچھلتی ہوئی نظر ڈالنا۔ ـ: ماتمی لباس پہننا۔ تَحَدَّدَ: حد بندی ہونا، سرحد مقرر ہونا، خاکہ بننا، نقشہ کھنچنا، حد مقرر ہونا، مقرر ہونا، تعریف کیا جانا، معین معنی بیان کیا جانا، تعریف وتشریح کے قابل ہونا، صراحت کے قابل ہونا، حد بندی کے قابل ہونا۔ اِحْتَدَّ: ناراض ہونا، یا ہو جانا، غصہ ہونا یا ہو جانا۔ ـ علی: پر طیش میں آنا، غضبناک ہونا، برہم ہونا، مشتعل ہونا، بھڑکنا۔ ـ: مضطرب ہونا، ہیجان میں آنا، پریشان ہونا، بے چینی کی حالت میں ہونا۔ حَدّ جمع حُدُود: (چاقو، تلوار کی) دھار، کنارہ، حد، سرحد، کسی ملک کی سرحد، حد فاصل: حد، انتہا، آخری حصہ، اختتام آخری جگہ، ریل کا آخری سٹیشن، بس وغیرہ کا آخری اڈا، ایک پیمانہ، حد، درجہ، ریاضی میں مساوات کا رکن، کسر، (اربعہ متناسبہ کی) اصطلاح، الٰہی فرمان یا قانون، قانونی (شرعی) سزا۔ لِحَدِّ یا اِلی حدٍّ: تک، کی حد تک۔ اِلی حدّ الآن یا لِحدّ الآن: اب تک۔ اِلی حدٍّ ما: کسی درجہ یا حد تک۔ اِلی حدٍّ بعید، اِلی حدٍّ کبیر: بڑی یا کافی حد تک، یا درجے تک، بہت کافی۔ اِلی ایّ حدٍّ: کتنی دور، کس درجہ یا حد تک۔ لاحَدَّ لَهُ: بے حد، لامحدود، لامتناہی، غیر محدود۔ بِلا حدٍّ یا اِلی غیر حدّ: بے حد، غیر محدود، علی حدٍّ سَواءٍ و علی حدٍّ سِویً: اسی طرح، اس قدر، یکساں، برابر برابر، اسی طور پر، علی ہذا القیاس۔ علی حدّ: کے مطابق۔ فی حدِّ ذاتِه و بِحدّ ذاته: بذاتہ، بنفسہ، بجائے خود، اس لحاظ سے۔ الحد الاعلی و الحد الاقصی: زیادہ سے زیادہ۔ الحد الأدنی: کم سے کم اقل ترین۔ حدٌّ عُمْرِیّ: عمر کی حد۔ ذو حدین: دو دھاری والا۔ فی حدود: کے اندر، کی حد میں، کے عرصہ میں، کے ڈھانچہ میں، بَلَغَ اَقْصَی حُدُودِہ: اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنا۔ حُدُودُ الله: اللہ تعالی کی طرف سے انسان کی آزادی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عمل پر عائد کردہ حدیں یا پابندیاں ـحَـدَد: ممنوع، قدغن لگایا ہوا ـحداد علی: پر ماتم کرنا، سوگوار ہونا، یا ماتم کرنے یا سوگوار ہونے کا عمل ـثوب الحِداد: ماتمی لباس، سوگ کا لباس ـحداد البلاط: درباری، یا شاہی ماتم ـحَدِید: لوہا، جمع حَدَائِد: (کسی تعمیر کے) آہنی حصے۔ دھاتی مال، لوہے کی مصنوعات، دھات کی بنی ہوئی چیزیں، اوزار برتن وغیرہ ـحدید خام: خام لوہا۔ دیگی لوہا ـحدیدٌ مُطاوِع: ٹوٹا ہوا لوہا ـحدیدٌ غُفُلٌ: ڈھلا ہوا لوہا۔ دیگی لوہا ـظَهْرُ الحدید اور حدید الظَهْر: دیگی لوہا، دیگ کا لوہا ـسِکَّةُ الحدید: ریل روڈ ـحَدِید جمع حَداد و اَحِدَّاء و اَحِدَّہ: تیز (چاقو، آنکھ، زبان وغیرہ) چوکس، چوکنا، ہشیار، ذہین) اَحَدّ: زیادہ تیز، زیادہ چوکس، شدید تر، قوی تر، زیادہ پرجوش، زیادہ تشدد آمیز، حَدِیْدَة جمع حَدَائِد: لوہے کا ٹکڑا، لوہے سے بنی ہوئی کوئی چیز یا اوزار ـحدیدة الحرث: ہل کا پھل، پھالی، علی الحدیدة: مالیاتی یا مالی مشکلات میں، جسے روپے کی تنگی ہو۔ حَدِیْدِی: لوہے کا، لوہے کے متعلق سِکَّة حَدِیْدِیَّة: ریلوے، ریلوے روڈ ـالحُدَیْدَة: (مغربی یمن کی بحری بندرگاہ کا نام) ـحُدَیدہ۔ حَدّاد: لوہار ـحِدَادَة: آہنگری۔ لوہاری، لوہار کا کام، دھات کا کام، دھاتی اشیاء بنانے کا فن ـعلی التحدید اور علی وجہ التحدید: ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک، سچی بات تو یہ ہے۔ درحقیقت، لگی لپٹی رکھے بغیر ـحادّ: تیز، چوکس، چوکنا، ہشیار (ذہن) اونچا لہجہ، تیز، تند، شدید، سخت، پرزور، پرجوش، پرشوق، سرگرم جوشیلا، آتش مزاج، جلد باز، درندہ صفت، خونخوار، شگفتہ خاطر، چنچل، واضح گہرا، بہت سخت (بیماری) ـحادالمزاج و حاد الطبع: گرم مزاج، گرم طبیعت کا، تیز مزاج، جوشیلا، تنگ مزاج، چڑچڑا، غصیلا، زودرنج، زاویة حادة: زاویہ حادہ (90 درجے سے کم کا زاویہ Acute angle) ـتحت الحاد: حادہ سے کم درجے کا ـمَحْدُود: جس کی حدود پر کوئی ملک وغیرہ واقع ہو۔ محدود، گھرا ہوا، پابند کیا ہوا، روک رکھا ہوا، قید کیا ہوا، محدود، تھوڑا (جیسے تعداد علم) حد بندی کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، مقررشدہ، قطعی، غیر مبہم، ناطق، فیصلہ کن، محدود کرنے والی صفت محدود المعنی: غیر مبہم، واضح، صریح ـمحدودُ الضمان: محدود ذمہ داری والا ـشرکة محدودة (المسئولیة): محدود ذمہ داری کی شرکت، کمپنی، کارپوریشن، مُحَدَّد: تیز کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، معین کیا ہوا، سختی سے حد مقرر کیا ہوا، واضح طور پر تعریف کیا ہوا۔ ـل: کے لئے مقرر شدہ، ٹھہرایا ہوا، مامور کیا ہوا۔ مُحْتَدّ: ناراض، غصہ میں، خشم آلود، طیش میں آیا ہوا، از خود رفتہ، تند و تیز، غضبناک، برہم، آشفتہ، برانگیختہ، بھڑکایا ہوا، آگ بگولہ۔

حدأ: حَدَأَ ـ حَدْأً الشيء عنه: کو سے پھیرنا۔ ہٹانا۔

۲۔ حَدِئَ ـ حَدَأً علیه: پر غضبناک ہونا ـبالمکان: کسی جگہ پر جم جانا۔ الیه: کسی کی پناہ لینا۔ کی پناہ میں آنا ـالیه وعلیه: پر مہربانی کرنا کی مدد کرنا، کو ظلم سے بچانا۔

۳۔ الحَدَأَة جمع حَدأء و حِداء: دوسروالی کدال ـجمع حِدَا اور حِدَاء و حِدآن (ح): چیل، عوام اسے حَدَّایَة اور شُوحة کہتے ہیں۔

حدب: ۱۔ حَدِبَ ـ حَدَبًا و اُحْدَبَ الرجلُ: کبڑا ہونا۔ صفت حَدِب و اَحْدَب: مونث حَدِبَة و حَدْباء جمع حُدْب و اَحْدَاب و حَدِبات ـ حَدَّبَ ہ: کو کبڑا بنانا، خمیدہ کرنا ـالشیَ: کو اونچا کرنا، ابھارنا۔ اَحْدَبَ ہ: بمعنی حَدَّبَ ہ۔ تَحَدَّبَ: کبڑا ہونا ـتَحَادَبَ و اِحْدَوْدَبَ: کبڑا ہونا ـالحَدَب: زمین کی سخت اونچی جگہ ـالحَدَبَة: کبڑا پن۔ پیٹھ میں کبڑی جگہ (کہا جاتا ہے فی ظهره حَدَبَةٌ: اس کی پیٹھ میں خمیدگی ہے)۔ ـمن الارض: بلند و سخت زمین ـمن الامور: مشکل کام ـالحَدْباء: مشکل کام (جمع)۔ (ح): جانور جس کی لاغری اور پیٹھ کی ہڈی سے اس کی کولہوں کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ قحط کا سال، المُحَدَّب: ابھرا ہوا، کبڑا ـمن الخطوط: ابھری ہوئی لکیر۔

۲۔ حَدِبَ ـ حَدَبًا علیه: پر مہربان ہونا ـتَحَدَّبَ علیه: پر مہربان ہونا ـبه: سے تعلق رکھنا ـت المراۃُ: خاوند کے مرنے کے بعد عورت کا بچوں کے لئے بیٹھا رہنا اور دوسرا شوہر نہ کرنا۔

۳۔ الحَدَب: کھال کا نشان۔ (ن) ایک قسم کا پودا۔ الحَدْباء: لاش، الأَحْدَب: تلوار ـ(ع ا): بازو کی ایک رگ۔

۴۔ اِحْدَوْدَبَ الرملُ: ریت کے قطعے کا لمبا ٹیڑھا ہونا۔ الحَدَب: موج اور پانی کا بہنے میں تہ بتہ ہونا۔

○ حَدِبَ ـ حَدَبًا: محدب ہونا، ابھرا ہوا ہونا، گنبد یا قبہ دار ہونا، محراب نما ہونا، خمیدہ ہونا، باہر کی طرف مڑا ہوا ہونا، کبڑا ہونا ـعلی / ب: پر مہربان ہونا، مشفق ہونا، سے دوستی کا برتاؤ کرنا کے بارے میں فکرمند ہونا، کا مشتاق ہونا، کی نگہداشت کرنا، کا خیال رکھنا، کی بہبود یا بہتری کے لئے کوشاں ہونا [illegible] بنانا، پر منبت کاری کرنا، گل کاری کرنا، کو ابھارنا، قبہ یا گنبد دار بنانا، کو ٹیڑھا کرنا، موڑنا، جھکانا ـتَحَدَّبَ و احدودب: ٹیڑھا ہونا، موڑ والا ہونا، پیچ دار ہونا، قوسی ہونا، محراب دار ہونا، ابھرواں ہونا، منبت کار ہونا، محدب ہونا ـحَدَب: محبت، شفقت، چاہ، لگن، پیار، مہربانی، پریشانی، تشویش، فکرمندی جمع حِداب و اَحْدَاب: زمین کی بلندی، ارتفاع، چڑھائی مِن کلِّ حدب و صوب یا من کل صوب و حَدَب: سب طرف سے، چاروں طرف سے، ہر طرف سے۔ فی کلِّ صوب و حدب: ہر جگہ، ہر حلقہ میں، تمام جانب ـحَدِب: مڑا ہوا، ابھرا ہوا، ابھرواں ـمحدّب کبڑا، مشفقانہ، دوستانہ ـحَدَبَة: کبڑا پن، کوہان، کب، کوبڑ، خمیدگی، گولائی، محراب نما یا گنبد نما ہونا۔ اَحْدَب مونث حَدْباء جمع حُدْب: کبڑا، کبا۔ خمیدہ پشت، کوزہ پشت، زیادہ مہربان، زیادہ دوستانہ، مُحَدَّب: گل کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا، نسبت کار، ابھرا ہوا، محدب۔

حدث: ۱۔ حَدَثَ ـ حُدُوثًا الامرُ: کسی امر کا واقع ہونا الحَدَث جمع اَحْدَاث: واقع ہونے والا امر ـاَحْدَاثُ الدهر: مصائب زمانہ ـالحُدْثی: حادثہ، حوادثُ الدهر: تغیرات زمانہ حِدْثانُ الدهرِ و حَدَاثانُه: زمانہ کی سختیاں۔

۲۔ حَدُثَ ـ حَدَاثَةً و حُدُوثًا: نیا ہونا، نوپید ہونا۔ (جب قَدُمَ کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے تو عین کلمہ پر ضمہ آتا ہے۔ جیسے (اخذنی ما قَدُمَ و ماحَدُثَ: مجھے پرانے اور نئے غموں نے آلیا) أَحْدَثَ ہ: کو ایجاد کرنا، پیدا کرنا۔ اِسْتَحْدَثَ ہ: کو پیدا کرنا ـالخبرَ: خبر کو نیا پانا۔ الحَدَث جمع اَحْدَاث و حُدْثان: جوان ـجمع اَحْدَاث: خلاف سنت نئی بات، دین میں بدعت۔ حُدُوث العالم عندا لفلاسفة: اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا نئی پیدا کردہ ہے اس کے بنانے والے نے اسے ایجاد اور پیدا کیا ہے۔ ازلی نہیں۔ الحَادِث مؤنث حادِثة جمع حوادِث و حادِثات: نئی چیز، نوپید، الحَدِیث جمع حِداث و حُدَثاء: نیا۔ المُحْدَث جمع مُحْدَثات: (مفع): وہ نئی شئے جس کا ثبوت نہ کتاب اللہ، نہ سنت رسول اور نہ اجماع امت میں مل سکے۔ نیا۔ الحَدَاثَة من الامر: کسی امر کا اول اور اس کی ابتداء۔ الحُدُوثَه: بمعنی الحَدَاثة الحِدثان: کسی امر کا اول اور اس کی ابتداء۔

۳۔ حَدَّثَ عن فلان: کسی سے کچھ بیان کرنا۔ روایت کرنا ـہ کذا و بکذا: کو کوئی خبر دینا۔ سے کچھ بیان

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا۔ حَادَثَ ہ سے گفتگو کرنا۔ تَحَدَّثَ بالشیئ وعن الشیئ: کے بارے میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، خبر دینا۔ تَحَادَثُوا آپس میں، یا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ الحَدِث و الحَدُث: اچھا کلام کرنے والا۔ رجلٌ حِدثُ ملوكٍ: بادشاہوں کا قصہ گو الحَدِیث جمع اَحَادِیث و حِدْثان و حُدْثان: خبر کہا جاتا ہے۔ صاروا اَحادیث: وہ لوگ مر کھپ گئے، اب صرف زبانوں پر ہی ان کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔ عِلمُ الحدیث عندالمسلمین: رسولؐ اللہ کے اقوال، افعال، حالات بتانے والا علم، اس کی اصل تحدیث یعنی خبر دینا ہے۔ کہا جاتا ہے، حدیثُ خُرافَةٍ: یہ مثل اس بات کے لئے بیان کی جاتی ہے جس کا واقع ہونا ناممکن ہو۔ معنی: ناقابل یقین کہانی، افسانوی قصہ۔ الحدیثُ ذوشجون: ایک بات سے بہت سی باتیں پھوٹتی ہیں۔ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ الحِدِّیث: بہت کلام کرنے والا۔ الحُدَّاث: گفتگو کرنے والی جماعت۔ الحِدِّیثی: حدیث۔ خبر۔ مُتَحَدَّثُ القوم: وہ جگہ جہاں لوگ بیٹھ کر باتیں کریں۔ الأُحْدُوثَة جمع اَحَادِیث: بات۔ خبر۔ کہانی۔ افسانہ۔

۴۔ حَادَثَ السیفَ: تلوار کو صیقل کرنا اسی سے ہے۔ کنصل السیف حُودِث بالصقال: تلوار کے پھل کی طرح جس کو صیقل سے جلا دی گئی۔

۵۔ اَحْدَثَ الرجلُ: پاخانہ کرنا۔ الحَدَث جمع اَحْدَاث: پاخانہ۔

○ حَدَثَ ـُ حُدُوثًا: واقع ہونا۔ حَدُثَ ـُ حَدَاثَةً: حال کا ہونا، نیا ہونا۔ نوجوان ہونا، حَدَّثَ ہ ھ / ب فی / عن: کسی بات کے بارے میں بتانا، سے کسی بات کے بارے میں بیان کرنا، کے علم میں کوئی بات لانا۔ ـ ہ عن / فی: سے کے بارے میں بات کرنا۔ حَدَّثَہٗ قلبُہٗ اور حَدَّثَتْہُ نفسُہٗ ب: اس کے دل نے یا وجدان نے اسے کوئی بات بتائی۔ حَدَّثَ نفسَہٗ ب: اپنے آپ کو کسی کام پر آمادہ کرنا یہ یقین کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی چیز واقعی ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش کرنا کہ کوئی چیز واقعی ہے۔ کوئی کام کرنے کا عزم صمیم کرنا یا کوئی کام کرنا جی میں ٹھان لینا۔ حَدَّثَ نفسَہٗ ان: اس نے اپنے آپ سے کہا کہ، اپنے آپ کو بتایا کہ حَادَثَ ہ فی / عن: سے کے بارے میں بات کرنا، گفتگو کرنا، سے کے بارے میں بحث کرنا، بات چیت کرنا، ـ ہ: سے گفت و شنید کرنا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، صلاح مشورہ کرنا، کو مخاطب کرنا، سے ٹیلیفون پر بات کرنا۔

اَحْدَثَ ہ: کو بنانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، کی بنیاد رکھنا کو قائم کرنا، کا باعث ہونا، کا باعث بننا، کی ترغیب دینا، کو کرنا، انجام دینا، عمل میں لانا۔ ـ بول و براز کرنا۔ اَحْدَثَ حَدَثًا: کا باعث بننا (خصوصا بڑے کام) مصیبت، شرارت وغیرہ کا باعث بننا) تَحَدَّثَ إلی عن / ب / فی: سے کے بارے میں یا کی بات کرنا۔ گفتگو کرنا۔ ـ الی / مع عن / ب / فی: کے ساتھ کے بارے میں باتیں کرنا، بات چیت کرنا، گپ شپ اڑانا۔ تَحَادَثَ: ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ اِسْتَحْدَثَ ہ: کو نیا بنانا، دوبارہ کرنا، کی تجدید کرنا، کو نیا خریدنا، کو پیدا کرنا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، ایجاد کرنا، شروع کرنا، کو رائج کرنا، چلانا۔ ـ ہ: کو نوجوان پانا یا سمجھنا۔ حَدَث جمع اَحْدَاث: نئی بے مثال چیز۔ نئی یا نرالی چیز۔ نیا خیال۔ نیا طریقہ، نئی بات، واقعہ، ماجرا، عجیب و غریب واقعہ، مظہر، بری علامت، فعل بد، برا کام، مجرمانہ فعل، حادثہ، بدبختی، مذہبی رسوم کی رو سے ناپاکی، پاخانہ، بول و براز۔ جمع اَحْداث و حُدثان: نوجوان۔ اَحْدَاث: کمسن، نوعمر، نابالغ (بچے) حَدِیث جمع حِدَاث و حُدَثَاء: نیا، انوکھا، حال کا حالیہ، ابھی کا تازہ، تازہ ترین، جدید، موجودہ زمانے کا، عصر حاضر کا، حَدِیثًا: حال ہی میں، کچھ عرصہ قبل، حَدِیثُ البناء: نئی بنی ہوئی، حال ہی میں تعمیر ہونے والی (عمارت وغیرہ)۔ حَدِیثُ السِن: نوجوان۔ حدیث العَهْد: حال ہی کا، کچھ عرصہ قبل کا، حالیہ، حال کا، نیا، نوجوان۔ حدیثُ عهدٍ ب یا حدیثُ العَهْدِ ب: حال ہی میں اختیار کیا ہوا یا حاصل کیا ہوا، حال ہی میں، جس کا زیادہ عرصہ سے عادی نہ ہو، کا ناتجربہ کار، میں نیا، ابھی حال ہی میں۔ حدیثُ العهد بالولادة: نومولود حدیث العهد بالزواج: نیا شادی شدہ۔ کان حدیثُ العهدِ باوروبا: اس کو کچھ عرصہ قبل ہی یورپ سے واقفیت ہوئی تھی۔ حَدِیث جمع اَحَادِیث و حِدثان: گفتگو، بات، گپ شپ، بات چیت، باتیں، عام بات، بحث، مباحثہ، انٹرویو، رپورٹ، بچوں کی باتیں، سرگزشت، کہانی، قصہ، رسولؐ اللہ کی حدیث، حدیثُ خُرافة: افسانوی قصہ، احمقانہ بات۔ حدیثُ قُدُسِیّ: وہ حدیث جس میں بات کرنے والا اللہ تبارک وتعالیٰ ہو۔ حدیثُ نبَوِیّ: رسول اللہ کی کہی ہوئی بات حدیثُ النفس: دل کی بات۔ پیش اندیشی، پیش آگاہی، یہ احساس کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا [illegible] الحُدُوث کی حالت [illegible] ہونا

کہ جاری رہے گا۔ وقوع (مظہر کا) دائرہ اثر، واقعہ، ماجرا، حادثہ۔ حَدَاثَة: نیاپن، انوکھاپن، عالم شباب، سن بلوغ، جوانی، شباب، نوعمری، احدث: زیادہ نیا، زیادہ حالیہ۔ حِدثان (یا حَدَثان) الدهر: بدبختی، آفات، مصائب، شکستیں۔ اُحْدُوثَة جمع اَحَادِیث: گویائی، گفتار، نطق، بیان، بات سخن، تقریر، بحث مباحثہ، بات چیت، بک بک، فرضی قصے کہنا، جھوٹ بولنا، غپ شپ، غپ، جھوٹ، گسی گفتگو کا موضوع، گپ شپ۔ افواہ (کسی شخص کے بارے میں) حُسنُ الأُحْدُوثَة: (کسی کی) تعریف، ستائش۔ سوءُ الاحدوثة: بہتان، رسوائی، ہتک۔ مَحَادَثَة جمع محادثات: مباحثہ، گفتگو بیان بات چیت، مکالمہ، بحث، گفت وشنید، مذاکرات۔

حادِث: واقع ہونیوالا، نیا، تازہ، حال ہی کا جمع حَوَادِث (و حادثات): واقعہ ضمنی قصہ، ضمنی واقعہ، حادثہ، افسوسناک حادثہ، مقدمہ، دعوی، حادث تزویر: جعلسازی کا کیس۔ مکانُ الحادث: جائے وقوعہ، جائے حادثہ، کارروائی کی جگہ۔ حَادِثَة جمع حَوَادِث: واقعہ، (کھیل کا) پلاٹ، درمیانی واقعہ، داستان در داستان۔ ضمنی بیان یا قصہ، حادثہ، افسوسناک حادثہ۔ حادثة المرور: ٹریفک ایکسیڈنٹ۔ مُحَدِّث جمع مُحَدِّثُون: بولنے والا، بات کرنے والا، ترجمان، گفتگو میں حصہ دار، مکالمہ میں حصہ لینے والا، بیان کنندہ، کہانی بیان کرنے والا، رسولؐ اللہ کی احادیث بیان کرنے والا، روایتی، علم یا مطالعہ حدیث کا نمائندہ، گراموفون، مُحْدَث: نیا، انوکھا، حالیہ، حال کا، کچھ عرصہ قبل کا، جدید، عصر حاضر کا، نو دولتیا، چھچھورا، مُتَحَدِّث: ترجمان، (Spokesman)، بولنے والا، سپیکر Speaker مُسْتَحْدَث: نیا، انوکھا، جمع مُستحدثات: انوکھاپن، نئی چیز، نئی بات، نیا خیال، نیا طریقہ، تازہ ایجاد، نئی مصنوعہ چیز، نئی تراشیدہ اصطلاحات، دینی عقائد میں عقلیات کا دخل۔

حدج: ۱۔ حَدَجَ ـِ حَدْجًا البعیرَ: اونٹ پر ہودہ / بوجھ لادنا۔ ـ الأحمال: بوجھوں کو باندھنا، کسنا، اَحْدَجَ البَعیرَ: اونٹ پر بوجھ لادنا، ہودہ باندھنا۔ الحِدج جمع حُدُج و حُدُوج و اَحْدَاج: بوجھ ـــــ والحَدَاجة جمع حَدَائِج: عورتوں کی اونٹ پر سواری کا ہودج، عماری۔

۲۔ حَدَجَ ـِ حَدْجًا الإبلَ: اونٹوں پر داغ لگانا المِحْدَج: اونٹوں کو داغ لگانے کا اوزار۔

۳۔ حَدَجَ ـِ حَدْجًا ہ: کو مارنا، پیٹنا۔ ـہ بالسهم: کو

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تیر مارنا۔ .. وحَدَّجَ ببصرہ گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا۔

۴۔ حَدَجَ ـِ حَدْجًا ہ بالذنب: پر گناہ کا الزام لگانا، کہا جاتا ہے۔ حدجہ ببیعِ سوءٍ: اس نے اس پر ایسی بیع لازم کردی، جس میں سراسر خسارہ ہے۔

۵۔ الحَدَج (ن): کچا اور سخت اندرائن۔ ابو حدَیْج (ح): لقلق پرندہ کی کنیت۔

۞ حَدَجَ ـِ وحَدَّجَ ہ /ہ (اکثر بصرہ یا بنظرہ کے ساتھ) کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، ابو حُدَیْج: بگلا، لقلق، حِداجۃ جمع حَدائج: اونٹ کی کاٹھی، زین۔

حدر ا۔ حَدَرَ ـُ حَدْرًا و حُدُورًا: نیچے اترنا۔ — الشیئَ کو نیچے اتارنا۔ ت العینُ الدمعَ آنکھ کا آنسو بہانا۔ — القراءۃَ وفی القراءۃ: تیزی سے پڑھنا — الدواءُ بطنَہٗ: دوا کا اسہال لانا۔ أَحْدَرَہٗ کو نیچے بھیجنا، نیچے کرنا۔ — القراءۃَ او المشیَ: تیز پڑھنا، تیز چلنا۔ تَحَدَّرَ و تَحادَرَ: نیچے اترنا، کہا جاتا ہے۔ رأیتُ الدمعَ یتحادر علی لحیتہ: میں نے دیکھا کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہہ رہا تھا۔ اِنْحَدَرَ: اترنا نیچے اترنا، کہا جاتا ہے۔ انحدرت من الجبل الی المدینۃ: میں پہاڑ سے اتر کر شہر گیا۔ الحَدَر: ڈھلوان جگہ۔ اتار کی جگہ۔ الحادِر (فا) من الجبال: اونچا پہاڑ۔ الحَدُور و الحَدْراء: ڈھلوان۔ الحادُور جمع حَوادِر: ڈھلوان، اسہال آور۔ الحَدُّورَۃ و الحُدُورۃ و الحادُورۃ: آنکھ سے آنسوؤں کا بہاؤ۔ المُنْحَدَر: ڈھلوان جگہ۔

۲۔ حَدَرَ ـُ وحَدُرَ ـُ حَدْرًا و حُدُورًا و حَدارۃً الرجلُ: موٹا اور مضبوط ہونا۔ الحادِر: خوبصورت، موٹا (کہا جاتا ہے ناقۃٌ حادرۃ العینین: پر گوشت حسین آنکھوں والی اونٹنی) سخت، شیر۔ حبل حادِرٌ: مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ حیّ حادِر: اکٹھا قبیلہ۔ الأَحْدَر مؤنث حدراء من الخیل: پر گوشت گھوڑا۔ الحَدْرۃ من العیون: پر گوشت آنکھ۔ الحَیْدَر والحَیْدَرۃ: شیر۔

۳۔ حَدَرَتْ حَدْرًا و حُدُورًا و حَدارۃً الجلدُ: جلد کا سوجنا۔ حَدَرَ ـُ حَدْرًا الجلدُ: جلد کا سوجنا۔ — الجلدَ: کھال کو متورم کرنا۔ أَحْدَرَ الجلدَ: جلد کو متورم کرنا۔ الجلدُ جلد کا سوجنا۔ اِنْحَدَرَ الجلدُ: کھال، جلد کا سوجنا، متورم ہونا۔ الحَدْرۃ (طب): پھوڑے کے اندر کا زخم۔

۴۔ حَدَرَ ـِ حَدْرًا و حُدُورًا اللثامَ عن حَنَکِہٖ: نقاب جھکانا۔ الحَدَر آنکھ کا بھینگا پن۔

۵۔ حَدَرُوا حولہ وبہ: کو گھیر لینا، کے گرد پھرنا۔

۶۔ أَحْدَرَ الثوبُ: کپڑے کا دامن چننا۔

۷۔ الحُدْرۃ: اونٹوں کا ریوڑ، الحَیْدَر کوتاہ قد، پستہ قد۔ الحَیْدَرَۃ: ہلاکت، کہا جاتا ہے۔ رماہُ اللّٰہ بالحَیْدَرَۃ: اللہ اسے مصیبت و ہلاکت سے دوچار کرے۔

۸۔ الحُنْدُر و الحُنْدُور و الحُنْدُورۃ و الحِنْدارۃ: آنکھ کی پتلی، کہا جاتا ہے۔ ھو علی حُنْدُرِ عینہ: وہ اسے پریشان کن پاتا ہے اس لئے بغض کی وجہ سے اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ جعلتہ علی حُنْدُورۃ عینی: میں نے اسے اپنا نصب العین بنایا۔

۞ حَدَرَ ـُ حَدْرًا و حَدارۃً: موٹا ہونا۔ حَدَرَ ـُ حَدْرًا وحُدُورًا ہ کو نیچے اتارنا، کو گرانا، (آنسو) بہانا حَدَرَ حَدْرًا: کوئی چیز سمجھے بغیر فر فر پڑھ دینا۔ کا جلدی سے اظہار کرنا۔ حَدُرًا: نیچے اترنا، نیچے آنا، پھسلنا، اچانک نیچے آنا۔ حَدَّرَ ہ کو گرانا، نیچا کرنا، جھکانا، ڈھکانا۔ تَحَدَّرَ: بتدریج اترنا، پھسلنا، نیچے آنا، نیچے اترنا، (آنسوؤں) کا بہنا۔ — من: سے حاصل کرنا، مشتق ہونا، نکلنا، شروع ہونا۔ اِنْحَدَرَ: نیچے آنا، نیچے جانا، اترنا، نیچے پھسلنا، ڈوبنا، جھکنا، گھٹنا، کم درجہ ہونا (آنسوؤں کا) بہنا، ڈھلوان ہونا، جھکنا — إلی: کسی جگہ آنا پہنچنا۔ حَدْر قرآن مجید کی تیز تلاوت حَدُور: ڈھلان، تنزلی، ڈھلوان، اونچی جگہ، تَحَدُّر ڈھلان، اِنْحِدار: ڈھلان، ڈھال، جھکاؤ، ڈھلان کا درجہ نیچے کو جانے والا راستہ، آبشار، نشیب، تباہی، زوال، انحطاط، تنزل، حادِر: موٹا، گھنا، مُتَحَدِّر اترنے والا، ڈھلوان، مُنْحَدِر: اترنے والا، نیچا، ڈھلوان، ڈھلوان جگہ، روبہ زوال، تنزل میں، زوال پذیر، بری حالت میں، بھدا، بھیت کذائی والا، بے گھر بے مایہ، پہلے سے کم، دلکش، مُنْحَدَر جمع منحدرات نشیب، گڑھ، ڈھلان، پشتے کا ڈھلوان حصہ، ڈھلوان پشتہ، ڈھال، جھکاؤ، آبشار۔

حدس ا۔ حَدَسَ ـِ حَدْسًا فی الامر: کا گمان کرنا، تخمینہ لگانا، وہم کرنا، آپ کہتے ہیں: بلغنی عن فلان امرٌ وانا احدس فیہ: میرے پاس فلاں شخص سے ایک بات پہنچی ہے۔ میں اس پر قیاس آرائی کر رہا ہوں۔ تَحَدَّسَ الخبار و عن الاخبار: چھپ کر اور خفیہ طور سے خبریں دریافت کرنے کی کوشش کرنا۔ الحَدْس (مص): تیز فہمی، زیرکی، دانائی۔ الحِداس: غایت، انتہاء، کہا جاتا ہے: بلغتُ بہ الحِداس: میں [illegible] کہا جاتا ہے۔ فلانٌ بعیدُ المحدس: فلاں کا مطلب بلند و بڑا ہے۔ الحَدْسِیّات فراست سے معلوم کی ہوئی باتیں۔

۲۔ حَدَسَ ـِ حَدْسًا فی السیر: تیز چلنا۔ — فی الارض: زمین پر بے پتہ چلتا جانا۔ — الشیَ برجلہ: کوروندنا۔ — الشاۃَ و بالشاۃ: بکری کو ذبح کرنے کے لئے لٹانا۔ — بہ الارضَ: کو زمین پر گرا دینا، پٹک دینا۔ الحَدِیس و المَحْدُوس زمین پر پچھڑا ہوا۔

۳۔ حَدَسَ ـِ حَدْسًا زیدًا: زید کو پچھاڑنا۔

۞ حَدَسَ ـِ حَدْسًا ہ کا اندازہ لگانا، پر قیاس آرائی کرنا، کا قیاس لگانا، کو انکل سے کہنا، اندازے سے کہنا، کا اندازہ کرنا، حَدْس قیاس آرائی، قیاس، اندازہ، انکل وجدان۔

حدق ا۔ حَدَقَ ـِ حَدْقًا القومُ بہٖ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ حَدَّقَ بہ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ أَحْدَقَ القومُ بہ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ — ت الروضۃُ: باغ کا چاردیواری میں گھرنا تَحادَقُوا: ایک دوسرے کو گھیرنا۔ افحَوْدَقَ القومُ بہ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ الحدیقۃ جمع حدائق: چاردیواری والا باغ۔

۲۔ حَدَقَ ـِ حُدُوقًا المریضُ: بیمار کا آنکھ کھول کر دیکھنا۔ — حَدْقًاہ بعینہ: کی طرف دیکھنا۔ — کی آنکھ کی سیاہی پر مارنا۔ حَدَّقَ الیہ: کو گھور کر دیکھنا، تیز نظر سے دیکھنا۔ الحَدَقۃ جمع حَدَق و حَدَقات و أَحْداق و حِداق (ع ا): آنکھ کی سیاہی کہا جاتا ہے۔ ھم فی مثل حَدَقَۃِ البعیر: ان کو فراخی اور پانی کی فراوانی خوب نصیب ہے۔ ھم رُماۃُ الحَدَق: وہ لوگ تیراندازی میں خوب ماہر ہیں۔ تکلمتُ علی حَدَقِ القوم: میں نے باتیں کیں تو لوگوں کی نظریں مجھ پر تھیں۔

۳۔ الحَدَق (ن) بینگن۔

۞ حَدَّف و حَدّاف و حداف الماکوک: جولا ہے کی نال جس سے دھاگا ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ طارۃ حَدّافۃ: فلائی وہیل Fly wheel (بھاری پہیہ جو مشین کو یکساں رفتار سے چلتا رکھنے کیلئے گھومتا ہے)۔

۞ حَدَقَ ـِ حَدْقًا ب: کو گھیرنا۔ — ہ بعینہ: کی (طرف) دیکھنا۔ پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا۔ چھچھلتی ہوئی نظر ڈالنا۔ حَدَّقَ إلی / فی / ب: کی طرف دیکھنا پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، کو گھورنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، تکنا۔ حَدَّقَ النظر فی: پر سرسری یا اچٹتی ہوئی نظر گاڑنا۔ أَحْدَقَ ب کو گھیرنا۔ — الی / فی / ب: کو

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تکنا، دیکھنا، پراچٹتی یا جھچھلتی نظر ڈالنا۔اَحْدَقَ النظر: پر سرسری یا اچٹتی نظر گاڑنا۔حَدَقَة جمع حَدَقات وحَدَق وحِداق واَحْداق: آنکھ کی پتلی۔احداق: اچٹتی ہوئی نظریں۔حدیقة: جمع حدائق: باغ۔حدیقة الحیوانات: چڑیا گھر۔اِحْداقٌ ب: کو گھیرنا۔خَطَرٌ مُحْدِقٌ: سر پر کھڑا خطرہ۔حَدَّق (بمعنی حذق) ہ: کو تیزابی، کھٹا، ترش، یا تیز بنانا۔حادِق: (حاذق) کھٹا، ترش، تیزابی یا تیز (ذائقہ)۔

حدل: ا۔حَدَلَ ـِ حَدْلًا وحُدُولًا علیه: ظلم سے کے خلاف ہونا۔حَدِلَ ـَ حَدَلًا علیه: پر ظلم کرنا۔الحَدْل (مص): کہا جاتا ہے انه لَحَدْلٌ: وہ عادل نہیں۔

۲۔ حَدَلَ ـِ حَدْلًا وحُدُولًا السطحَ: سطح پر رولر پھیرنا۔حَدِلَ ـَ حَدَلًا: ایک کندھے کا دوسرے سے بلند ہونا صفت اَحْدَل مونث حَدْلَاء جمع حُدْل (خلاف قیاس) وحَدِل جمع حَدَالی۔تَحَادَلَ: کمان پر جھکنا۔الحِدْل: گردن کا درد۔الأَحْدَل: جس کے کندھوں اور گردن پر جھکاؤ ہو۔المُحْدَال: چکنا۔المِحْدَلَة: رولر (Roller) بیلن۔مِحْدَلَةُ الطریق: سٹیم رولر۔سڑک کوٹنے کا انجن۔

۳۔ حَادَلَ ہ: سے دورخی سے کام لینا، کو ڈبل کراس کرنا۔

۴۔الحِدْل: ازار باندھنے کی جگہ۔الحَوْدَلة: ٹیلہ۔

○ حَدَلَ ـِ حَدْلًا ہ: کو چپٹا کرنا، ہموار کرنا، برابر کرنا، بیلنا۔حَدْلًا و حُدُولًا علی: سے ناانصافی سے پیش آنا۔

حدم: حَدَمَ ـِ حَدْمًا ہ: کو تیز گرم کرنا۔ــــ الدمَ: خون کو گہرا سرخ کرنا۔تَحَدَّمَ و اِحْتَدَمَ الرجلُ: غصہ سے مشتعل ہونا۔اِحْتَدَمَ النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا۔الدمُ: خون کا گہرا سرخ ہونا یہاں تک کہ سیاہ ہو جانا۔الشرابُ: شراب کا جوش تیز ہونا۔ـتِ القدرُ: ہانڈی کا سخت ابلنا۔الحَدْم والحَدَم: آگ کی تیز بھڑک۔سخت شعلہ زنی۔الحَدَمَة: آگ بھڑکنے کی آواز۔الحِدام: غیض وغضب۔غصہ۔

○ اِحْتَدَمَ: جلنا، دہکنا، دمکنا، لہکنا، لال ہونا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، روشن ہونا، آگ سے بھسم ہو جانا، ختم ہو جانا، (جنگ) تیز ہو جانا، جنگ لگ جانا۔ ــــ علی: پر غضبناک ہونا، برہم ہونا۔طیش کھانا۔اِحْتَدَمَ غیظًا: غضبناک ہونا، برہم ہونا، طیش کھانا۔اِحْتِدَام: دورہ، باری، غلبہ، جذباتی دورہ۔مُحْتَدِم: غضبناک، برہم، طیش میں آیا ہوا۔غصہ میں۔

حدا: ا۔حَدَا ـُ حَدْوًا و حِدَاءً و حُدَاءً: بلند آوازی سے حدی گانا، کہا جاتا ہے۔ما أَمْلَحَ حُدَاءَہ: اس کا حدی کا گانا کس قدر پسندیدہ ہے۔الابلَ و بالابل: اونٹوں کو ہدی خوانی کرتے ہوئے ہانکنا۔صفت حادٍ جمع حُدَاة ــ الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو چلانا، ہانکنا ــ ہ علی کذا: کو پر برانگیختہ کرنا۔الحادِی: اونٹوں کو گا کر ہانکنے والا۔الحَدّاء: حادی کا مبالغہ کا صیغہ۔الأُحْدُوَّة والأُحْدِیَّة: اونٹوں کو ہانکتے وقت گایا جانے والا گیت۔الحَدْواء: شمالی ہوا۔

۲۔ حَدَا ـُ حَدْوًا واِحْتَدَی اللیلُ النهارَ: رات کا دن کے بعد آنا۔الحادِی فی الحادی عشر: حادی عشر میں حادِیْ "واحد" کا مقلوب ہے۔ــــ وحادِی النجم (فلك) دوستارے۔الحَوَادِی: ٹانگیں۔ہر چیز کے آخری حصے۔

○ حَدَا ـُ حَدْوًا وحُداءً وحِداءً ہ / ب إلی: کو پر اکسانا، آمادہ کرنا، پر کیلئے زور دینا، کو کی مہمیز کرنا۔حداب: پر اکسانا، ابھارنا، کی شہ دینا۔ــ: جھولنا، ہلنا، جھولتے جانا، ہلتے جانا (اونٹ پر سوار ہو کر) ــــ حدا بهم الحدیثُ الی: ان کی بات چیت انہیں...... تک لے گئی۔غَرَضٌ تُحدَی الیه الرکائِبُ: بہت مطلوب مقصد یا ایسا مقصد جس کے لئے کوشش کی جانی چاہئے۔تحدی ہ: کے خلاف مقابلہ میں حصہ لینا۔ ہ / ہ: کو چیلنج کرنا کو اشتعال دلانا۔کے مقابلہ میں آنا، کا مقابلہ کرنا، کے مقابلے میں جمے رہنا، کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا۔ــ ہ: کو تیز کرنا، اکسانا، ابھارنا، جگانا، اٹھانا، میں جان ڈالنا، روح پھونکنا۔ــــ ذکاءہ: کی ذہانت تیز کرنا۔ــ ہ: کو کرنے کا ارادہ کرنا، کو کرنے پر تل جانا۔حَدّاء: اونٹ ہانکنے والا۔ساربان، شتر سوار، شتربان۔اُحْدُوَّة و اُحْدِیَة: شتربانوں کا گیت۔تَحَدٍّ: چیلنج، اشتعال حادٍ جمع حُداة: میر کارواں (جو گا کر اونٹوں کو ہانکتا ہے) شتربان، شتر سوار، رہنما۔مُتَحَدٍّ: چیلنج کرنیوالا، اشتعال دلانے والا۔ حَدِیَ ـَ ب: کسی جگہ رہنا، ٹھہرنا، کسی جگہ سے وابستہ رہنا۔

حدی: حَدِیَ ـَ حَدًی بالمکان: کسی جگہ جم کر رہنا۔حَدَّی الشیءَ: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔تَحَدَّی الرجلَ: سے مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔ــــ الشیءَ: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔الحُدَیَّا: جھگڑا، مقابلہ، کہا جاتا ہے: هو حُدَیَّا الناس: وہ لوگوں سے مقابلہ کرنیوالا ہے۔وانا حُدَیَّاكَ فی هذا الأمر: اور میں اس معاملہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا، نکل کر مجھ سے ہم آہنگی کرو۔

حذ: حَذَّ ـُ حَذًّا ہ: کو جلدی کاٹ دینا۔الحُذَّة: گوشت کا ٹکڑا ... بوری میں ... یا ... بالوں کا ہلکا پن۔حَذَذُ القلب: دل کی ذکاوت اور تیز فہمی۔الأَحَذّ مونث حَذّاء جمع حُذّ: تیز (رفتار) ناقة حَذّاءُ: تیز رفتار اونٹنی۔قصیدة حَذّاء: مشہور ومعروف قصیدہ۔حاجةٌ حَذّاءُ: سریع التکمیل اور جلد کامیاب ہونے والی حاجت۔عزیمةٌ حَذّاء: پختہ ومصمم ارادہ) ہلکی دم والا، ہلکے ہاتھ والا، دبلا۔قلبٌ اَحَذّ: ذکی دل۔امرٌ اَحَذّ: ناپسندیدہ سخت، بے مثل امر۔

حذر: حَذِرَ ـَ حَذَرًا و حِذْرًا و مَحْذُورَةً الرجلَ و من الرجل: سے بچنا۔ہوشیار رہنا۔چوکنا رہنا۔صفت: حَذِر وحَذُر جمع حَذِرُون وحَذَارَی، حَذَّرَہ: کو ڈرانا، متنبہ کرنا، بچانا۔حَاذَرَہ: ایک دوسرے سے محتاط رہنا۔ڈرتے رہنا۔واحتذرہ و تَحَذَّر منه: سے بچتے رہنا، ہوشیار رہنا۔اِحْذَارَّ: غضبناک ومنقبض ہونا۔حَذَارِ: اسم فعل بمعنی: ڈرو، خوف کرو۔کہا جاتا ہے۔حَذَرَ ایّاك زیدًا: زید سے بار بار بچو۔الحاذِر (فا): مستعد، تیار۔الحُذَرَّی: باطل۔المَحْذُور: وہ چیز جس سے بچا جائے۔المَحْذُورَة: ڈر، گھبراہٹ، خوفناک مصیبت، لڑائی، جنگ۔الحِذْرِیان: چوکنا۔الحاذورة: بہت محتاط، بہت چوکنا۔الحُذَارِیات: ڈرانے والے۔

○ حَذِرَ ـَ حِذْرًا وحَذَرًا ہ / ہ / من: سے محتاط رہنا، سے چوکس، چوکنا یا ہوشیار ہونا، سے بچنا، حَذَّرہ من: کو کے بارے میں یا سے متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، کو سے بچانا۔حَاذَرَ خبردار ہونا، ہوشیار ہونا۔ ہ: سے چوکنا، چوکس یا ہوشیار ہونا محتاط ہونا۔تَحَذَّرَ من: سے محتاط ہونا۔بچنا۔احتذر بمعنی حَذِرَ حِذْر و حَذَر: احتیاط چوکسی، خبرداری، ہوشیاری، بچنا۔اَخَذَ حَذْرَہُ: چوکنا، چوکس، یا ہوشیار ہونا۔علی حَذَرٍ: احتیاط سے، چوکسی سے، ــ من: سے بچتے ہوئے، سے احتیاط کرتے ہوئے، حَذِر محتاط، چوکس، چوکنا، ہوشیار، حَذَارِ من: سے خبردار، بچ محتاط ہو، سے چوکنا رہ ــ ان: کچھ کرنے سے بچ۔تحذیر من: کے متعلق تنبیہ، کے خلاف احتیاط، چوکسی، سے خبرداری، مُحَاذَرة: احتیاط، چوکسی، خبرداری، پیش بندی، حفظ ماتقدم، احتیاطی تدبیر۔مَحْذُور: جس سے خبردار ہونا چاہئے، بچنا چاہئے، احتیاط کی چیز، جمع مَحْذُورات: خطرہ، سخت خطرہ، مصیبت، مشکل، بدبختی۔

حذف: ا۔حَذَفَ ـِ حَذْفًا ہ: کو کاٹنا، گرانا۔حَذَّفَ الشیءَ: کو اچھے طریقے سے کرنا یعنی ہر غیر ضروری چیز ... کر کے تمام عیوب سے پاک صاف کرنا۔

martat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ـــشَعَرَہٗ: بالوں کو برابر کرنا۔ زلف نکالنا۔ الحذافة من الشی: تھوڑی چیز۔ تراشہ۔

۲۔ حَذَفَ ـِ حَذْفًا ہ بالعصا او الحجر: کو لاٹھی یا پتھر سے مارنا۔ تَحَذَّفَ ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ یا لاٹھی پھینک کر مارنا۔

۳۔ حَذَفَ ـِ حَذْفًا فی مشیتہ: چلنے میں قریب قریب قدم رکھنا۔

۴۔ الحَذَف (ح): چھوٹی قسم کی بھیڑیں۔ حَذَفُ الزرع: کھیتی کے پتے۔ الحَذَف واحد حَذَفَة (ح): ایک قسم کی بط۔ الحُذَفَة: پست قد عورت۔ الحُذافة من الشی: تھوڑی چیز۔

۵۔ الحِذْفار و الحُذْفُور جمع حَذَافِیر: جانب (کہا جاتا ہے اخذه او نالہ بِحِذْفارِہ و بحُذفورِہ و بحَذَافِیرِہ: اس نے وہ سب لے لیا)۔ انبوہ کثیر لڑائی کے لئے تیاری کرنے والے۔ کہا جاتا ہے۔ اُشْدُدْ حذافِیرَكَ: تیار ہو جاؤ۔

○ حَذَفَ ـِ حَذْفًا ہ / من: کو کم کرنا، مختصر کرنا، کاٹنا، کترنا، تراشنا، قلم زن کرنا، حذف کرنا، میں تخفیف کرنا، کو قطع کرنا، چھوٹا کرنا، ـــ من: سے کچھ لے جانا، کاٹ ڈالنا، کم کر دینا، کو قلمزن کرنا، منسوخ کرنا۔ ـــ ہ: کو منسوخ کرنا، قلمزن کرنا، قلمزد کرنا، خارج کرنا، ـــ پر قلم پھیرنا، کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، کو نہ کرنا، ممنوع قرار دینا، کی اشاعت روک دینا۔ ـــ ہ: کو کم کرنا، مجرا کرنا، کو تفریق کرنا، منفی کرنا، گھٹانا، نکالنا (حساب) ـــ ب پر کوئی چیز پھینکنا۔ ـــ ب کو پھینک دینا، رد کر دینا، ترک کر دینا۔ حَذَّفَ ہ: کو کاٹنا، تراشنا، کی کانٹ چھانٹ کرنا، کو کانٹ چھانٹ کر کے درست کرنا، کو کوئی شکل دینا، کو کاٹ کر، کانٹ چھانٹ کر یا تراش کر مناسب شکل میں تبدیل کرنا۔ حذف: چھوٹا کرنا، کم کرنا، گھٹانا، قطع کرنا، کانٹ چھانٹ، منسوخی، تنسیخ، قلمزنی، قلمزدگی، اخراج، ترک کرنا، چھوڑ دینا، فرو گزاشت، حذف۔ اخذه بحذافیرہ: اس نے وہ سب کچھ لے لیا۔ تمام کا تمام لے لیا۔

حذق ا۔ حَذَقَ ـِ و حَذِقَ ـَ حَذْقًا و حِذْقًا و حَذَاقًا و حِذاقًا و حِذاقَةً و حَذَاقَةً الکتابَ: ساری کتاب کا مطالعہ کرنا، ماہر ہونا۔ صفت: حَاذِق جمع حُذَّاق و حِذَاق ـــ العملَ: کام میں ماہر ہونا۔ حَذَّقَ ہ: کو ماہر بنانا۔ تَحَذَّقَ: ماہر ہونا۔ ـــ علیہ: پر مہارت ظاہر کرنا۔ الحُذاقِیّ: فصیح زبان والا۔

۲۔ حَذَقَ ـِ حَذْقًا الشیءَ: کو کاٹنا۔ اِنْحَذَقَ: کٹنا۔ کہا جاتا ہے۔ حَذَقْتُ الحبلَ فانحذق: میں نے رسی کو کاٹا تو وہ کٹ گئی۔ الحِذْق جمع حِذَق و حُذَاق: (آخری غیر قیاسی ہے): ٹکڑا۔ الحَذِیق: کٹا ہوا۔ الأحْذَاق: ٹکڑے کہا جاتا ہے۔ حبلٌ اَحْذَاق: کٹی ہوئی رسی جمع کے ساتھ صفت لاتے ہیں جیسے ثوبٌ اخلاق۔ الحُذَاقِیّ: تیز چھری۔

۳۔ حَذَقَ ـِ حُذُوقًا الخلُّ: سرکہ کا بہت ترش ہونا۔ ـــ الخلُّ فاه: سرکہ کا منہ کو چرکا دینا الحاذِق (فا) جمع حُذَّاق و حِذَاق من الخلّ: بہت تیز سرکہ۔

۴۔ الحُذَاقَة: تھوڑا کھانا۔ الحُذاقِیّ (ح): گدھے کا بچہ۔

○ حَذِقَ ـَ و حَذَقَ ـِ حِذْقًا و حَذَاقَةً (ہ / فی): میں ماہر ہونا، ہنر مند ہونا، آزمودہ کار ہونا، بہت منجھا ہوا ہونا، قابل، لائق، واقف یا ذی علم ہونا۔ ـــ ہ: میں کمال حاصل کرنا، استاد ہونا، حاوی ہونا، حَذَقَ ـِ حُذُوقًا: ترش ہونا۔ تَحَذَّقَ: ماہر ہونے کا بہانہ کرنا۔ قابلیت کا حیلہ کرنا، چالاک اور بانکا بننا حِذْق اور حَذَاقَة: مہارت، ذہانت، چابک دستی، سبک دستی، تیز فہمی تیز طبعی، چالاکی ہوشیاری، سمجھ، عقل، فہم، فراست، بصیرت، زیرکی، ذکا، دقیقہ رسی، حَاذِق جمع حُذَّاق: ماہر، ہنر مند، آزمودہ کار، قابل، لائق اچھی طرح واقف۔ ذی علم، ہوشیار، تیز طبع، زیرک، چتر، سیانا، دانشمند خبردار، تیز فہم، ترش، کھٹا۔ تَحَذْلَق: چالاک یا ہنر مند بننا، مہارت یا علم و معرفت کا بہانہ کرنا۔ اپنے علم کو فخریہ طور پر ظاہر کرنا حَذْلَقَة: مہارت، ہنر مندی، کاریگری۔

حذل ا۔ حَذِلَ ـَ حَذَلًا تِ العینُ: آنکھ کی پلکیں گرنا۔ صفت: حَذْلَاء۔ اَحْذَلَ العینَ: پلکوں کے بال گرانا۔ الحَذَل: پپوٹے کے بالوں کا گرنا، پلکوں کا گرنا۔ الحُذَالَة: چاول یا کسی اور چیز کی بھوسی۔

۲۔ تَحَذَّلَ علیہ: پر مہربان ہونا۔ الحَذْل: میلان، جھکاؤ۔

۳۔ الحَذْل و الحُذَل و الحُذُل: کپڑے کے دامن کی گولائی۔ الحُذَالَة: کپڑے کے دامن کی گولائی۔ ایک قسم کا سرخ گوند۔

۴۔ حَذْلَقَ و تحذلق: مہارت ظاہر کرنا یا مہارت کا دعوی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ انہ یتحذلق فی کلامہ: وہ اپنی گفتگو میں ظریف اور ہوشیار بنتا ہے۔ حُذْلِق الشیءُ: تیز کیا جانا الحِذْلِق من الرجال: پکی آدمی۔

۵۔ حَذْلَمَ: جلدی کرنا۔ ـــ العودَ: لکڑی کو چھیل کر تیز کرنا۔ ـــ السقاءَ: مشک کو بھرنا۔ تَحَذْلَمَ: جلدی کرنا۔ باادب ہونا۔ الحُذْلُوم: ہلکا پھلکا۔ سبک رفتار۔

حذم ا۔ حَذَمَ ـِ حَذْمًا ہ: کو کاٹنا۔ الحَذِم: کٹے پرندے کی اڑان۔ الحَذِم والحِذْیَم و المِحْذَم من السیوف: کاٹنے والی تلوار۔ قاطع تلوار۔

۲۔ حَذَمَ ـِ حَذْماً و حَذَمَانًا فی مشیہ: تیز چلنا۔ دیر کرنا۔ (ضد)۔ الحُذَام: سست، کاہل، کہا جاتا ہے: اشتری عبدًا حُذامَ المشی: اس نے ایک سست رفتار غلام خریدا۔

۳۔ حَذَامِ: یمامہ کی ایک عورت کا نام۔ زرقاء الیمامہ کہلاتی تھی۔ تیز نظر ہونے کی وجہ سے ضرب المثل مشہور ہے۔ ابصرُ من زرقاء الیمامة: زرقاء الیمامہ سے زیادہ صاحب بصیرت۔

حذا ا۔ حَذَا ـُ حَذْوًا و حِذاءً النعلَ: جوتے کو نمونہ پر کاٹنا۔ ـــ النعلَ بالنعل: جوتے کو جوتے کے نمونہ پر کاٹنا (ضرب المثل ہے جزیتہ حذو النعل بالنعل: میں نے اسے برابر کا صلہ دیا) ـــ ہ ولہ و اَحْذَاه نعلًا: کو جوتا پہنانا، جوتا دینا، یا کے لئے جوتا بنانا۔ اِحْتَذَی: جوتا پہننا۔ اِسْتَحْذَی ہ: سے جوتا طلب کرنا۔ الحِذاء جمع اَحْذِیَة: جوتا (ع ا): گھوڑے کا نعل، اونٹ کا موزہ ضرب المثل ہے: کلُّ الحذاء یحتذی الحافی الوَقِع: دکھتے ہوئے اور ننگے پاؤں والا ہر قسم کا جوتا پہن لیتا ہے۔ یہ مثل ایسے مصیبت زدہ کیلئے بولی جاتی ہے جو معمولی چیز پر قناعت کرے۔ جیسے کہتے ہیں، بھوکے کو دو روٹی غنیمت ہے۔ الحَذْوَة و الحُذْوَة: گوشت کا ٹکڑا۔ الحَذَّاء جمع حَذَّاؤون: جوتے بنانے والا۔

۲۔ حَذَا ـُ حَذْوًا و حِذَاءً ہ و ـــ حَذْوَہ: کی پیروی کرنا، نقل کرنا۔ اِحْتَذَی مثال فلانٍ و علی مثالہ: کی پیروی کرنا، کی مشابہت پیدا کرنا۔

۳۔ حَذَا و حَاذَی مُحَاذَاةً و حِذَاءً ہ: کے سامنے ہونا، کے سامنے بیٹھنا۔ تَحَاذَیَا: یکدوسرے کے سامنے ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ بنو فلان یتحاذون الماء: بنو فلاں پانی آپس میں برابر بانٹتے ہیں۔ الحِذاء والحِذة والحَذُو والحُذْوَة والحِذْوَة: سامنے، مقابل: کہا جاتا ہے۔ داری حِذاءَ دارِہ: میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے۔ جلس حِذاءَہ و بحذاءِہ: وہ اس کے مقابل بیٹھا۔ المُحاذِی: سامنے۔ مقابل، کہا جاتا ہے۔ ھو مُحَاذَاك: وہ تیرے سامنے یا مقابل ہے۔

۴۔ حَذَا ـُ حَذْوًا و حِذاءً الشرابُ لِسانَہ: شراب کا زبان کو چھیل دینا۔

۵۔ حَذَا ـُ حَذْوًا و حِذاءً التراب فی وجوھھم: کے مونہوں میں خاک ڈالنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۶- حَذَا ـُ حَذْوًا و حِذَاءً زیدًا شیئًا: زید کو کچھ دینا۔ الحِذْوَة الحُذْوَة: عطیہ۔ بخشش۔

ؾ حَذَا ـُ حَذْوًا: حذا حذوَه: کی نقل کرنا، کے مشابہ ہونا، کی مثال پر عمل کرنا۔ حاذاه: کے مقابل ہونا۔ کے سامنے ہونا، کے متوازی ہونا، کا سا ہونا۔ تحاذی: ایک دوسرے کے مقابل ہونا، متوازی ہونا۔ اِحْتَذَی علی / ب: کی نقل کرنا۔ ـه: کی نقل کرنا۔ ـ علی / ب/ ه: کو بطور مثال یا نمونہ لینا، اختیار کرنا یا پر بطور مثال یا نمونہ عمل کرنا۔ ـه: کو بطور جوتے کے پہننا۔ حَذْوَ: کے مقابل، کے سامنے حَذْوَكَ النعلَ بالنعل: مکمل طور پر ہو بہو یا یکساں انداز میں ٹھیک ٹھیک، پھلی میں مٹروں کی طرح، حِذَا جمع اَحْذِیَة: جوتا، سینڈل۔ صانع الأَحْذِیَة: موچی، کفش دوز، جوتے بنانے والا۔ حِذاءَ و بِحِذَاءِ: کے مقابل، کے سامنے۔ حَذَّاء: جوتے بنانے والا، موچی علی محاذاة یا فی محَاذاة: کے ساتھ ساتھ، پہلو بہ پہلو، کے متوازی، احتذاء: نقل کرنا، مُحَاذٍ: مقابل، سامنے۔

حذی: ۱- حَذَی ـِ حَذْیًا الخَلُّ لِسَانَهُ: سرکہ کا زبان کو چھیلنا۔

۲- حذَی ـِ حَذْیًا یَدَهُ: کا ہاتھ کاٹنا۔ ـه بلسانه: کی غیبت کرنا، کو گالیاں دینا۔ المِحْذاء: بہت عیب جوئی یا غیبت کرنے والا۔

۳- أَحْذَی إِحْذَاءً ه طعنةً: کو نیزہ مارنا۔

۴- اَحْذَی اِحْذَاءً ه: کو مال غنیمت کا حصہ دینا۔ الحُذیا و الحُذَایَة و الحَذِیَّة: مال غنیمت کا حصہ الحُذَیَّا: خوشخبری سنانے والے کو دیا جانے والا ہدیہ، مال غنیمت کا حصہ۔

حرّ: ۱- حَرَّ ـَ حَرَارًا العبدُ: غلام کا آزاد ہونا۔ ـ حَرَارًا و حُرِّیَّةً: آزاد اور شریف اصل والا ہونا۔ حَرَّرَ العبدَ: غلام کو آزاد کرنا۔ ـ الولد او الشیءَ: لڑکے کو یا چیز کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خدمت کے لئے وقف کرنا، بعض کے نزدیک لڑکے کو صرف اللہ کی خدمت کے لئے آزاد کرنا اور اس سے کوئی اور کام نہ لینا معنی ہے۔ تَحَرَّرَ العبدُ: غلام کا آزاد ہونا۔ الحُرّ جمع اَحْرار و حِرار: آزاد، شریف، ـ من کل شیء: ہر شئے کا عمدہ حصہ کہا جاتا ہے۔ فرسٌ حُرٌّ: اصیل گھوڑا۔ طینٌ حُرٌّ: مٹی جس میں ریت نہ ملی ہو۔ حُرُّ الارض: زمین کا بہترین حصہ۔ حُرُّ الوجه: رخسارہ کہا جاتا ہے۔ لطمه علی حُرِّ وجهه: اس نے اس کے گال پر طمانچہ مارا۔ الحُرَّة جمع حَرائر و حُرَّات: حرّ کا مونث۔ آزاد عورت شریف عورت ارضٌ حُرَّة (ط ا): زمین جس کی مٹی میں ریت نہ ہو رملةٌ حُرَّة: وہ ریت جس میں گارا نہ ہو۔ الحُرِّیَة و الحَرُورَة و الحَرُورِیَّة (ان آخری دو لفظوں میں ح مضموم بھی آتی ہے) آزادی، خالص ہونا۔ حُرِّیَّةُ القوم: قوم کے شریف لوگ۔ کہا جاتا ہے: هو من حُرِّیَّة قومه: وہ اشراف قوم سے ہے۔

۲- حَرَّ ـَ حَرًّا و حَرَّةً و حُرُورًا و حَرَارَةً: گرم ہونا۔ ـ الماءَ: پانی گرم کرنا۔ اَحَرَّ النهارُ: دن کا گرم ہونا۔ اِسْتَحَرَّ القتالُ: لڑائی کا تیز ہونا، شدت اختیار کرنا۔ الحَرّ جمع حُرُور و اَحَارِر (قیاس کے خلاف): گرمی۔ الحَرَّة جمع حَرَّات و حِرار، و أَحَرُّون و حَرُّون (ط ا): سیاہ بوسیدہ پتھروں والی زمین۔ الحجرُ الحَرِّی: سیاہ بوسیدہ پتھروں والی زمین سے منسوب پتھر۔ الحجر الحرّانی بھی کہلاتا ہے۔ اس سے چکیاں بنائی جاتی ہیں۔ الحارّ: گرم۔ الحَرُور: گرم ہوا، سورج کی گرمی، آگ۔ الحَرِیر و المَحْرُور: غصہ کی گرمی والا۔ الحَرَارَة: گرمی۔ الحَرِیرَة: غصہ کی گرمی والی۔ المَحرُور: اپنے اندر گرمی رکھنے والا۔

۳- حَرَّ ـَ حَرَّةً: پیاسا ہونا۔ اَحَرَّ صدرَهُ: کو پیاسا کرنا، پیاس لگانا۔ الحِرَّة: پیاس۔ کہتے ہیں: رماه اللّٰهُ بالحِرَّةِ تحت القِرَّة: اللہ تعالیٰ اس کو موسم سرما میں پیاس میں مبتلا کرے۔ الحَرَّان مونث حَرَّی جمع حِرَار و حَرَارَی: سخت پیاسا۔

۴- حَرَّ ـِ حَرًّا الارضَ: زمین کو برابر کرنا، ہموار کرنا۔ حَرَّرَ الکتابَ: کتاب کو خوبصورت اور درست لکھنا۔ ـ الوزنَ: وزن ٹھیک کرنا۔

۵- حَرَّرَ المعنی: معنی کو حشو و زوائد سے پاک کرنا۔ الحُرِّیَّة: خلوص۔

۶- الحُرّ (ح): شکرا، باز، کبوتر کا بچہ۔ حُرُّ الدار: گھر کا درمیان، بیچ۔ ساقُ حُرٍّ (ح): زقمری۔ عینُ حُرٍّ (ح): ایک پرندہ۔ احرار البقول: خام کھائی جانے والی سبزیاں، جیسے سلاد۔ الحارّ من الاعمال: دشوار یا مشقت والا کام۔ الحَرَّة: درد ناک عذاب، پھنسی، بہت تاریکی۔ الحریر: ریشم، ریشم کا کپڑا یا لباس۔ الحَریرة: ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا [illegible]

الحَرِیرِیّ: ریشم بنانے والا ریشم فروش۔

☆ حَرَّرَ ه: کو صاف کرنا، واضح کرنا، ٹھیک بنانا یا وضع کرنا، کو صحیح طور پر لفظوں میں ادا کرنا، کی ٹھیک تعریف کرنا، کا صحیح محل یا مقام جان لینا، (کتاب پر) نظر ثانی کرنا (کتاب رسالہ) مدوّن کرنا، کی ایڈیٹری کرنا، کی ادارت کے فرائض سر انجام دینا)، کتاب رسالہ اشاعت کے لئے تیار کرنا، کتاب کی تدوین کرنا، کتاب رسالہ کو درست کر کے شائع کرنا۔ ـ ه: کو لکھنا، تحریر کرنا، تصنیف کرنا، تالیف کرنا، ترتیب دینا، جمع کرنا، مرتب کرنا۔ حُرّ جمع احرار (مذکر)، حرائر (مونث): شریف آزاد پیدا ہونے والا، اصلی، خالص، کھرا، بے میل (جیسے لعل جواہر وغیرہ) بے ملاوٹ، آزاد، آزادی سے زندگی بسر کرنے والا، جسے حقوق شہریت حاصل ہوں، جسے روکا نہ گیا ہو، حریت پسند (جمع احرار)، آزاد خیال (جمع احرار)۔ ـ علی: کے بارے میں صاف دل، راستباز، صاف گو، صاف باطن، بے لاگ، مخلص، بے تعصب، ـ: دستیاب دولت جس کی سرمایہ کاری نہ کی گئی ہو۔ الاحتیاطی الحرّ: آزاد غیر زیر بار اور محفوظ سرمایہ۔ من حرِّ مالِهِ: اپنی نقدی کے ساتھ، اپنے ہاتھ میں موجود وسائل سے۔ حَرَّة جمع حَرَّات: پتھریلا علاقہ، آتش فشانی سرزمین، لاوے کا علاقہ۔ حُرِّیَّةُ العباده: عبادت کی آزادی۔ حریة الفکر: سوچ کی آزادی، آزادی فکر۔ حریة النشر (او الصحافة): پریس کی آزادی۔ حریرٌ صَخرِیٌ: ازبستس، ازبستاس، ریشہ دار معدنی مادہ asbestos۔ حریر صناعِیّ: نقلی یا مصنوعی ریشم (rayon)۔ حَرِیرِی: ریشمی، ریشم کا، ریشم کے متعلق۔ حرائِری: ریشمی، ریشم کا، ریشم کا کپڑا بنانے والا۔ حَرَّار: ریشمی کپڑا بنانے والا۔ حَرَارَة: گرمی، گرمائی، بخار کی حرارت، بخار، درجہ حرارت، ٹمپریچر (temperature)، شدت کی گرمی، (احساس، جذبہ کا) جوش، ولولہ، تپش، شوق، طیش، سرگرمی، گہری دلچسپی، شدت، سختی، زور (کمال کا) جلنا، جلن۔ حُرَیرَة جمع حُرَیْرَات: حرارت کی اکائی، حرارہ (غذا سے حاصل ہونے والی) توانائی کی اکائی، (calory, caloric)۔ حَرَارِیّ: حرارت کا، حرارت کی اکائی کا، توانائی کی اکائی کا۔ وحدة حراریة: حرارت کی اکائی، حرارہ، (غذا سے حاصل ہونے والی) توانائی کی اکائی۔ حراریه جمع حراریات: بمعنی وحدة حراریة حَرَّان مونث حَرَّی جمع حِرار

maktabah.org

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

و حَـــرَارَیٰ: پیاسا، پرجوش، تپتا ہوا، پرولولہ، گرم (مجازا)۔ زَفْــرَـۃ حَـرَّی: گرم آہ، پرولولہ آہ، دموعْ حَرَّی: گرم گرم آنسو۔ اَحَرّ: زیادہ گرم، زیادہ پرتاب۔ عـلـی احرّ من الجَمْر: خلجان میں، غصے میں، انتہائی تشویش کے عالم میں، زبردست جوش میں۔ مِـحَـرَّ: گرم کرنے کا نظام، گرم کرنے کی تنصیب۔ تـحـریـر: آزادی، مخلصی، رہائی، خلاصی، رہائی، چھٹکارا، مکتی، نجات، ریکارڈ کرنا، قلمبند کرنا، ضبط تحریر میں لانا، محفوظ کر لینا، لکھنا، اشاعت کے لئے ترتیب دینا، درست کر کے شائع کرنا، تدوین، ترتیب، تالیف، ادارت (اخبار وغیرہ کی) جمع تـحریرات و تحارِیر: تحریر کا ٹکڑا، دستاویز، انتخاب، خلاصہ، ریکارڈ۔ رئیس التحریر: ایڈیٹر انچیف۔ ادارۃ التحریر: ایڈیٹروں کی مجلس، ادارتی عملہ۔ تَـحْرِیْرِی: آزادی کا، چھٹکارے کا، نجات کا، نجات کا، مخلصی کا، حریت پسندانہ، ضبط تحریر میں لایا ہوا، تحریری، لکھا ہوا، بصورت تحریر۔ حـارّ: گرم، قدرے گرم، پرجوش، پرشوق، جلتا ہوا، سرگرم، دہکتا، دمکتا، تیز، تند، ولولہ انگیز، تندخو۔ مُحَرِّر جمع مُحَرِّرُون: آزاد کرنے والا، لکھنے والا، کلرک، (اخبار رسالہ وغیرہ کا) ایڈیٹر، مدیر۔ مُـحَرَّر: اللہ تعالیٰ کے لئے وقف شدہ، قلمبند کیا ہوا، ضبط تحریر میں لایا ہوا، لکھا ہوا، فہرست میں مندرج، نوٹ کیا ہوا جمع مُحَرَّرات: اندراجات، ریزرویشنز، مُتَـحَرِّر: آزاد، آزادی کا حامی۔

حرب: ا۔ حَرَبَ ـ حَـرْبًا الرجلَ: کا سب کچھ لوٹ لینا یا چھین لینا۔ صفت مفعولی۔ حَرِیب جمع حَرْبی و حُـرَبـاء و مُحْرُوب: حُرِبَ الرجلُ مالَہ: کا مال چھینا جانا۔ حَارَبَ حِـرابًا و مُحَارَبَۃً ہ: سے لڑائی کرنا۔ أَحْـرَبَ فـلانًـا: کی دشمن کا مال لوٹنے کے لئے رہنمائی کرنا۔ـ الحربَ: لڑائی کو بھڑکانا۔ تَـحَـارَبَ و اِحْتَـرَبَ الـقـومُ: لڑائی کی آگ بھڑکانا۔ الـحَرْب جمع حُـرُوب: جنگ، لڑائی۔ آپ کہتے ہیں: وقـعـت بینھم حربٌ: ان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ یہ کلمہ مؤنث ہے اور کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تصغیر حُرَیب ہے۔ـــ الصاعقۃُ یا الحرب الخاطفۃ: جلد فتح کے لئے فوج کی طرف سے اجتماعی جنگ۔ رجـلٌ حَـرْبٌ: شجاع، جنگجو آدمی۔ کہا جاتا ہے: انـا حـربٌ لـمـن یـحـاربنی: جو مجھ سے لڑے میں اس کا دشمن ہوں۔ دارُ الحرب: دشمنوں کا ملک، وہاں کے رہنے والے حـربـیـون کہلاتے ہیں۔ الـحَرَب: ہلاکت، تباہی، خرابی۔ الحَـرْبَۃ جـمع حِـراب: نیزہ، برچھی، برچھا، گھاؤ۔ الـحِـرْبَۃ: جنگ کی ہیئت، کہا جاتا ہے: وقعت بینھم حربۃ شدیدۃ: ان کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی۔ الحَرَّاب: نیزہ بردار، نیزہ بنانے والا۔ الحِرْباء: زرہ کی میخ۔ المِحْرَب و المِحْراب جمع محَارِیب: جنگجو، لڑاکا، بہادر۔

۲۔ حَـرِبَ ـ حَـرَبًـا: سخت غضبناک ہونا، صفت: حَرِب۔ حَرَّبَ ہ: کو غضبناک کرنا۔ اِحْـرَنْبَی اِحْـرِنْبَاءً: شرارت وغصہ کے لئے، تیار و آمادہ ہونا۔ الحَرِب جمع حَرْبَی: سخت غضبناک۔

۳۔ حَـرِبَ الـرجلُ: ہلاکت کو بلانا، ہائے افسوس ہائے افسوس کہنا (وَاحَـرْبـاہ)۔ وَاحَـرْبَا: اس کلمہ سے مرنے والے پر روتے ہیں، افسوس کرنے کے لیے مستعمل ہے: افسوس، ہائے افسوس۔ (واحرباہ میں ہ وقف کے لئے ہے)۔

۴۔ حَرَّبَ السـنانَ: نیزے کے پھل کو تیز کرنا۔

۵۔ حرِبَ ـ حَرَبًا: پیاسا ہونا۔

۶۔ اَحْرَبَ النخلُ: کھجور کے درخت کا شگوفہ نکالنا۔

۷۔ اِحْـرَنْبَی احرنباءً: چت لیٹ کر اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھانا۔

۸۔ اِحْـرِنْبَیَ احـرنـبـاءً المکـانُ: جگہ کا وسیع وکشادہ ہونا۔

۹۔ الحَرْبَۃ جمع حَـرَبات و حَرْبات: دینی فساد، جمعہ کا دن۔ الـمَحْرَب و المِحْرَاب جمع مَـحَارِیب: صدر مجلس، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ (کہا جاتا ہے: انہ یکرہ المحاریب: وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ صدر مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے ممتاز ہو) شیر کی کچھار۔ الـمِـحْـرَاب: گھر کا شروع کا حصہ، اچھی جگہ، قبلہ۔ مِحرابُ المسجد: امام کی جگہ۔ الحِرْباء: پشت کا گوشت۔ـــ والحِرباءۃ جمع حَـرَابـیّ (ح): گرگٹ، تلون مزاجی کے لئے بطور مثل مشہور ہے، عام لوگ اسے حِرْبایَۃ و بِرْبُخْتی (فارسی) کہتے ہیں۔

۱۰۔ الحِرْبِش و الحِرِبِّش (ح): اژدہا۔

○ حَـرِبَ ـ حَـرَبًـا: ناراض ہونا، برہم ہونا، غضبناک ہونا۔ حَـارَبَ ہ: سے لڑنا، جنگ کرنا، کے خلاف یا سے لڑنا، لڑائی کرنا۔ تَحَارَبَ: آپس میں لڑنا، ایک دوسرے سے لڑنا، جنگ میں مشغول ہونا، احتـرب: بـمعنی تحارب: حرب (مونث) جمع حُرُوب: جنگ، لڑائی ـــ علی بالہ کا دشمن یا کے دشمن۔ حـربٌ اھلیۃ: خانہ جنگی۔ حـرب صحـافِیۃ: صحافیانہ یا پریس منافرت۔ الحـروب الصلیبیۃ: صلیبی جنگیں۔ الحـرب العُظمَی و الحرب العالمیّۃ و الحـرب العامۃ: پہلی جنگ عظیم۔ کشـفـت الـحـربُ عن سـاقھـا اور قـامت الـحـرب علی سـاقٍ: شدید جنگ شروع ہو گئی یا یکا یک لگ گئی۔ حَـرْبِـیّ: جنگجو، جنگجوانہ، جھگڑالو، محارب، شریک جنگ، جنگی، فوجی، جمع حـربـیـون: جنگجو، نبرد آزما، (فوجی) سپاہی۔ البَولِیسُ الحربی: ملٹری پولیس۔ حَـرْبَۃ: نیزہ، برچھا، برچھی، بلم، نیزے کی انی، انی، سنگین، تلوار۔ مِـحـراب جمع مَحـاریب: محراب مسجد، نماز کا طاق۔ احتراب: گھمسان کی لڑائی، باہمی کشمکش۔ مُـحَـارَبَۃ: جدوجہد، لڑائی، جنگ، جنگ و جدل، لڑائی بھڑائی، محاربہ۔ مُحَارِب: جنگ کرنے والا، لڑنے والا، جنگجو، جنگی سپاہی، فوج کا معمولی افسر۔ المتحاربون: جنگ کے فریق، شرکاء جنگ۔

○ حَرْبُوشَۃ جمع حَرَابِش: گولی۔ حَبّ (دوا کی) (مٹھائی کی) گولی، (دوا کی) گولی۔

حرت: حَرَتَ ـ حَرْتًا الشیءَ: کو سخت ملنا۔ حَرِتَ ـ حَرَتًا الرجلُ: بدخلق ہونا۔ الحَرْت: جانور کے چبانے کی آواز۔ الحَرِیت (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

حرث: ا۔ حَرَثَ ـ حَرْثًا: کھیتی باڑی کرنا، صفت: حارِث جمع حُرَّاث و حَرَّاث۔ ـــ الارضَ: زمین میں ہل چلانا، کھیتی بونا۔ الـحَـرْث (ر): کھیتی۔ الحارِث جمع حُرّاث (فا)۔ الحِراثۃ: کھیتی، کاشتکاری۔ المِـحْـرث جمع مَحَارِث و المِحراث جمع مَحَارِیث (ر): ہل۔

۲۔ حَـرَثَ ـ حَـرْثًـا المـالَ: مال کمانا، جمع کرنا۔ اِحْتَـرَثَ المـالَ: مال کمانا۔ الحـارِث و ابو الحـارث: شیر کی کنیت۔ الحَـرائِث واحد حَرِیثَۃ: کمائیاں۔

۳۔ حَرَثَ ـ حَرْثًـا و أَحْرَثَ و إحْتَرَثَ الدابۃَ: جانور کو تھکانا، لاغر و دبلا کرنا۔ صفت مفعولی: حرِیثۃ ج حُرائِث۔

۴۔ حَرَثَ ـ حَرْثًا الخبزَ: روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

۵۔ حَرَثَ ـ حَـرْثًا الشیءَ: کا اچھی طرح مطالعہ کرنا۔

۶۔ حَرَثَ ـ الأمرَ: کسی امر کو یاد کر کے بھڑک جانا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ـ النارَ: آگ کو کریدنا۔ المِحْرث جمع مَحَارِث و المِحْرَاث جمع مَحَارِيث: آگ ہلانے کی سیخ، کریلنی۔

☆ حَرَثَ ـ حَرْثًا ہ: زمین میں ہل چلانا، زمین جوتنا، زمین میں بونا، زراعت کرنا، کاشت کرنا، زمین ٹھیک کرنا، سدھارنا، سنوارنا، زمین تیار کرنا، کھیتی باڑی کرنا۔ حَرْث: کھیتی باڑی کرنا، زمین جوتنا، زمین میں ہل چلانا، کاشتکاری کرنا، کھیتی، کھیتی باڑی، کھیتی کی زمین، زراعت، کاشتکاری، قابل زراعت یا قابل کاشت زمین، کاشت، مزروعہ زمین، شجر زار، باغ، پودے، درخت۔ حَرْثَة: قابل کاشت یا قابل زراعت زمین، کاشت، زراعت، مزروعہ زمین۔ حِرَاثَة: کھیتی باڑی، کاشتکاری، زمینداری، کشاد زری، زراعت۔ حَرّاث: ہل چلانے والا، کسان۔ حارِث جمع حُرّاث: ہل چلانے والا۔ ابو الحارث: شیر۔

حرج: ١۔ حَرِجَ ـ حَرَجًا الرجلُ: مجرم ہونا۔ أَحْرَجَ ہ: کو گناہ میں مبتلا کرنا۔ تَحَرَّجَ: گناہ سے بچنا۔ الحَرَج: گناہ۔ کہا جاتا ہے: لا حَرَجَ عليك: تمہارا کوئی قصور نہیں یا تم پر کوئی اعتراض نہیں۔ حَدِّثْ عن البحر ولا حرج: سمندری حالات بیان کرو۔ مبالغہ وغیرہ کے بارے میں تم پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ الحِرْج جمع أَحْرَاج و حِراج: گناہ۔

٢۔ حَرِجَ ـ حَرَجًا الشیءُ: تنگ ہونا۔ ــــ ت العينُ: آنکھ کے دھنس جانے کی وجہ سے چندھیانا۔ ــ اليه: تنگ ہو کر کی پناہ لینا۔ ــ الغبارُ: گرد و غبار کا تنگ مقام میں چکر کھانا۔ حَرَّجَ ہ: کو تنگ کرنا۔ ــ عليه: پر دباؤ ڈالنا، کسی سے کہنا کہ تو تنگی میں ہے۔ أَحْرَجَ ہ: کو تنگی میں ڈالنا، کو تنگ جگہ کے لئے مجبور کرنا۔ ــ فلانًا اليه: کو پر مضطر کرنا۔ الحَرَج: گھنے درختوں والی تنگ جگہ۔ الحَرِج تنگ، گھنے درختوں والی تنگ جگہ۔ الحَرِيج: تنگ۔ المُحَرِّج: تنگ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: حلف بالمُحَرِّجَات: اس نے تنگی میں مبتلا کرنے والی قسمیں کھائیں۔

٣۔ حَرِجَ ـ حَرَجًا عليه الشیءُ: پر کسی چیز کا حرام ہونا۔ أَحْرَجَ عليه الامرَ: پر کوئی کام حرام کرنا، ناجائز ٹھہرانا۔ الحَرَج: حرمت۔

٤۔ حَرَجَ ـ حَرْجًا انيابَهُ: غصہ سے دانت پیسنا۔

٥۔ حَرَّجَت النصاعة فی يد الدلّال: مال یا سامان تجارت کی قیمت کا دلال کے پاس انتہائی بڑھ جانا۔ الحَرَاج: دلال کے پاس مال یا سامان تجارت کی قیمت کا مزید بڑھنے سے رک جانا۔ سوقُ الحَرَاج: نیلامی کا بازار، بازار نیلامی۔

٦۔ الحَرَج: مردہ لیجانے کا تختہ۔ الحَرِج: لڑائی میں ثابت قدم رہنے والا، کسی معاملہ میں پیش قدمی کرنے سے خوف کھانے والا۔ الحِرْج جمع أَحْرَاج و حِراج: بکریوں کا ریوڑ، شکار میں کتے کا حصہ، درندوں کے شکار کے لئے رسیوں کا پھندا، کوڑی۔ الحَرَجَة جمع حَرَج و حَرَجَات: بکریوں یا اونٹوں کا ریوڑ۔ ــ ج حِراج و أَحْرَاج (ن): جنگل۔ المِحْرَاج من الليالی: بہت ٹھنڈی رات۔

٧۔ حَرْجَلَ حَرْجَلَةً: لمبا ہونا، دائیں بائیں دوڑنا۔ الحُرْجُل و الحُرَاجِل: لمبا۔ الحَرْجَل و الحَرْجَلَة: گھوڑوں کا گلہ۔ کہا جاتا ہے: جاءَ وا حَرَاجِلَةً: وہ اپنے گھوڑوں پر آئے۔ الحَرْجَلَة: لنگڑا پن۔

٨۔ حَرْجَمَ الإبلَ: اونٹوں کو ایک دوسرے پر گرتے ہوئے جمع کرنا۔ إِحْرَنْجَمَ القوم او الابلُ: لوگوں یا اونٹوں کا اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ ــ عن الامر: کسی امر کا ارادہ کر کے اس سے ہٹ جانا۔

○ حَرِجَ ـ حَرَجًا: تنگ ہونا، مضبوط ہونا، مشکل میں یا مصیبت میں مبتلا ہونا، مشکلات میں گھر جانا، محدود ہونا، زچ ہونا، بڑی مشکل میں ہونا، ذہنی تکلیف یا کوفت میں ہونا۔ ــ علی: پر حرام ہونا۔ حَرَّجَ ہ: کو تنگ کرنا، مضبوط کرنا، کسنا، مشکل میں ڈالنا، کو پیچیدہ بنانا، الجھانا، میں الجھنیں پیدا کرنا، کو مشکل بنانا۔ ــ ہ علی: کو پر حرام کرنا، ناجائز ٹھہرانا۔ ــ فی: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ أَحْرَجَ ہ: کو تنگ کرنا، محدود کرنا، میں روڑا اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا، کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو حد کے اندر رکھنا، پر پابندی لگانا، کو پیچیدہ بنانا، مشکل بنانا، بگاڑنا، سنگین بنانا، خطرہ میں ڈالنا۔ ــ ہ: کو پریشان کرنا، مشکل میں ڈالنا۔ ــ الی: کو پر مجبور کرنا۔ ــ ہ علی: کو پر حرام کرنا۔ تَحَرَّجَ: گناہ اور برے کاموں سے پرہیز کرنا۔ ــ من: سے باز رہنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، سے پہلوتہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا۔ ــ زچ ہونا، دیوار سے لگا دیا جانا، مظلوم ہونا یا ہو جانا، مصیبت میں مبتلا ہونا، سخت ذہنی اذیت میں ہونا، نازک یا تشویشناک ہو جانا، پیچیدہ یا مشکل ہو جانا (صورت [illegible]) جانا۔ تَحَرَّجَ صدرُہ من (ب): سے افسردگی محسوس کرنا، پر پریشان ہونا۔ تَحَرَّجَ به الناسُ: اس بات نے لوگوں کے لئے معاملات یا حالات کو مشکل بنا دیا۔ حَرَج: تنگی، سختی، گنجانی، روک، آڑ، قید و بند، سمٹاؤ، کھچاوٹ، قبض، اینٹھن، پابندی، قید، مصیبت، جبر، تعدی، ظلم و ستم، دکھ، تکلیف، تنگ دستی، احتیاج، دشواری، انتہائی جسمانی یا روحانی تکلیف یا اذیت، مشکل، پر اندیشہ صورت حال، ممانعت، امتناع، حرام، ممنوع چیز، گناہ۔ لا حَرَجَ: کوئی اعتراض نہیں۔ لا حَرَجَ عليك: تمہارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، تمہیں آزادی حاصل ہے۔ حَرَج واحد حَرَجَة جمع حرجات و حِراج و أَحْرَاج: درختوں کا جھنڈ، گھنا جنگل، درختوں سے بھرا ہوا علاقہ، عمارتی لکڑی کے درختوں سے بھرا ہوا علاقہ۔ حَرِج: تنگ، کسا ہوا، پابند، مظلوم، سخت دباؤ میں، دق، پریشان، سنگین (صورت حال، حالت)، أَحْرَج: زیادہ تنگ، زیادہ قریب، زیادہ کسا ہوا، زیادہ سنگین۔ حَرَاج نیلام۔ حَرَاجَة: سنگینی، شدت مشکل، پیچیدگی (صورت حال کی)۔ تَحْرِيج: جنگل بنانا، جنگل لگانے کا عمل۔ تَحَرُّج: پابندی، روک، ممانعت، ضبط، احتیاط، بے تعلقی، بے ربطی، بے وابستگی، بزدلی، بے حد شرمندہ پن، لحاظ، جھجک، بے اعتمادی، بے حوصلگی، کم ہمتی، بودا پن، ڈرپوکی، سنگین پیچیدگی، بھاری پن، (صورت حال کی) دشواری۔ مُحَرِّجات الأيمان: واجب، ذمہ داری لینے والی باضابطہ قسمیں۔ مُحْرِج: پریشان کن، کام بگاڑ دینے والا۔ مُتَحَرِّجُ الصدر: پریشان، ہنگامہ خیز، ہلچل پیدا کرنے والا، تشویش انگیز، سخت اذیت میں، مظلوم، دبایا ہوا۔

حرد: ١۔ حَرِدَ ـ حَرَدًا و حَرْدًا عليه: پر غضبناک ہونا صفت حارِد و حَرِد و حَرْدان۔

٢۔ حَرِدَ ـ حَرَدًا و حَرْدًا الوترُ: کمان کے تاروں میں بعض کا بعض سے لمبا ہونا صفت: حَرْد۔

٣۔ حَرَدَ ـ حَرْدًا ہ: کا ارادہ کرنا، قصد کرنا۔

٤۔ حَرَدَ ـ حَرْدًا ہ: کو منع کرنا، روکنا۔ حَرَّدَہ: کو منع کرنا، روکنا۔

٥۔ حَرَدَ ـ حَرْدًا الخشبَ: لکڑی میں سوراخ کرنا۔

٦۔ حَرَدَ ـ حُرُودًا: اپنی قوم سے جدا ہو کر اکیلا اور تنہا ہونا صفت: حَرْد و حَرِد جمع حِراد و حَرِيد جمع حُرَداء: حَرَّدَ الشعرُ: بال کا تنہا اگنا۔ أَحْرَدَہ: کو علیحدہ کرنا۔ اِنْحَرَدَ: اکیلا ہونا، تنہا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونا۔

۷۔ حَرَّدَ الشيءَ: کو ٹیڑھا کرنا۔

۸۔ حَرَّدَ الحبلَ: رسی بٹنا۔

۹۔ حَرَّدَ: جھونپڑی میں پناہ لینا۔ المُحَرَّد (ا ع): چوکیدار کا جھونپڑا۔

۱۰۔ حَارَدَتِ الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا، صفت حَرُود و مُحَارِد۔ ۔ت السنة: سال کا کم بارش والا ہونا۔ ۔ الرجل: پہلے دینا اور پھر دینا بند کر دینا۔ الحَرِيد: بہت میں سے تھوڑی چیز۔ الأحْرَد جمع حُرُد: بخیل، کمینہ۔

۱۱۔ انْحَرَدَ في المشي: تیز چلنا۔ انحرد النجم: ستارہ ٹوٹنا۔

۱۲۔ تَحَرَّدَ الاديمُ: ادھوڑی کے بال گرنا۔

۱۳۔ الحَـرَد (مص): اونٹ کی اگلی ٹانگ کے پٹھے کا ڈھیلا پن۔ الأحْرَد جمع حُرْد: حَرَد کی بیماری کا مریض، زرہ کے بوجھ کی وجہ سے اچھی طرح نہ چل سکنے والا۔ الحَرِيد: دور، خشک کی ہوئی مچھلی۔

☆ حَرِدَ ـ حَرَدًا علي: پریا سے پریشان ہونا، ناراض ہونا، غیر مطمئن ہونا، برہم ہونا، غضبناک ہونا۔ حارِد و حَـرِد و حَـرْدان: پریشان غیر مطمئن، ناراض، برہم، غضبناک۔

حـرذ: الحِرذَوْن جمع حَرَاذِين (ح): گرگٹ کے مشابہ ایک جانور، نر سوسمار۔

☆ حِرذَوْن جمع حَرَاذِين: چھپکلی، چلپائیہ۔

حرز ۱۔ حَرَزَ ـ حَرْزًا المال: کی حفاظت کرنا، کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ حَرَّزَ الشيءَ: کو محفوظ رکھنے میں حد سے تجاوز کرنا۔ أحْـرَزَ الشـيءَ: کو جمع کرنا، محفوظ رکھنا، کا ذخیرہ رکھنا۔ الحَـرَز جمع أحْـرَاز: ہر وہ چیز جو محفوظ کی گئی ہو۔ الحِـرْز: ہر چیز جو اشیاء کی حفاظت میں کام آئے جیسے صندوق وغیرہ۔ ہر وہ چیز جو ضائع اور تلف ہونے سے بچائے۔ حصہ، کہا جاتا ہے: اخذ حِرزَهُ اس نے اپنا حصہ لیا۔ الحَرِيز: جمع کردہ شئے۔ کہا جاتا ہے۔ لاحَرِيزَ من بيع أگر تم نے میری خواہش کے مطابق قیمت دے دی تو میں فروخت کرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ الحَـرِيزَة جمع حَـرَائِز من الابل: وہ اونٹ جسے عمدگی کی وجہ سے فروخت نہ کیا جائے۔

۲۔ حَرُزَ ـ حَرَزًا: پرہیزگار ہونا۔ حَرُزَ ـ حَرَازَةً و حَرَازًا المكانُ: جگہ کا محفوظ ہونا۔ حَرَّزَ و أحْرَزَ المكانُ الرجلَ: جگہ کا کسی کے لیے جائے پناہ بننا۔ تَحَرَّزَ و احْتَرَزَ منه: سے بچنا۔ اِسْتَحْرَزَ: محفوظ جگہ میں آ جانا۔ الحِرْز: محفوظ جگہ (کہا جاتا ہے: حِرْزٌ و حَرِيزٌ و حارِزٌ: مُحَصَّن حصين منيع (محفوظ جگہ وغیرہ) جیسے کہا جاتا ہے: داهية دهياء) (معوذین کی اصطلاح میں) تعویذ۔ الحِرْز جمع أحْرَاز

۳۔ الحَـرَز جمع أحْـرَاز: اخروٹ جس سے بچے کھیلتے ہیں۔

○ حَرَزَ ـ حَرْزًا ہ: کو رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو بچانا، محفوظ رکھنا، کا خیال رکھنا۔ حَـرُزَ ـ حَـرَازَةً: مضبوط ہونا، مضبوطی سے قلعہ بند ہونا، ناقابل تسخیر ہونا۔ أحْـرَزَ ہ: کو رکھنا، محفوظ رکھنا، کو بچائے رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو حاصل کرنا، جیتنا۔ احرز نصرًا (انتصارًا): کامیابی حاصل کرنا۔ أحْرَزَ قَصَبَ السَّبْقِ: بڑی کامیابی حاصل کرنا، جیتنا۔ تَحَرَّزَ من: میں چوکس، چوکنا یا ہوشیار ہونا، سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ۔ محتاط ہونا، احتیاطی تدابیر کرنا، توجہ کرنا۔ حِـرز جمع أحْـرَاز: محفوظ جگہ، جائے پناہ، پناہ گاہ، گوشہ تنہائی، حفاظت (جمع احـراز و حُرُوز) تعویذ۔ حَرِيز: سخت محفوظ، ناقابل رسائی، ناقابل تسخیر۔ إحْـرَاز: حصول۔ اِحْتِـرَاز جمع اِحترازات: احتیاط، چوکنا پن، ہوشیاری، ہوشمندی، دور بینی، قید، جھجک، تحفظ۔ بکل الاحتراز: مکمل تحفظ سے۔ حَارِزة (فیوز، برقی) fuse۔ مُحرِز: حاصل کرنے والا، جیتنے والا۔ ۔ علی: کا حامل، پر قابض۔

حرس ۱۔ حَرَسَ ـ حَرَسًا ہ: کی حفاظت کرنا، رکھوالی کرنا صفت حارِس جمع حُرَّاس و حَرَسَة و حَرَس و أحراس، أحْرَسَ بالمكان: کسی جگہ کی حفاظت کے لئے مقیم ہونا۔ تَحَرَّسَ و اِحْتَرَسَ منه: کسی سے محفوظ رہنا، بچ کر رہنا۔ الحَرَس بمعنی حُرَّاس ۔ حَرَسُ الملك واحد حَرَسِيّ: شاہی محافظ، باڈی گارڈ، بادشاہ کے اعوان، الحِرَاسَة: حفاظت۔ الحَرِيسَة جمع حرائس بکریوں کا باڑہ۔

۲۔ حَرَسَ ـ حَرْسًا الشيءَ: کو چرانا، چوری کرنا۔ الحَرِيسَة جمع حَرَائِس: رات کو چوری کی ہوئی بکری، چوری۔

۳۔ حَرِسَ ـ حَرَسًا: لمبی زندگی پانا۔ الحَرْس جمع أحْراس: زمانہ۔ کہا جاتا ہے۔ مضی عليه حَرْسٌ: اس پر ایک زمانہ گزر گیا۔ الأحْرَس: پرانا (جس پر ایک زمانہ گزر گیا ہو)

۴۔ حارِسُ السماء و حارِسُ السِماك (فلك): دو ستارے۔ الحَرَسان: رات، دن۔

○ حَرَسَ ـ حَرْسًا و حِرَاسَةً ہ/ہ: کی حفاظت کرنا، پہرے داری کرنا، نگہبانی کرنا، کو قابو میں رکھنا، پر تسلط قائم رکھنا، کی نگرانی کرنا، کا انتظام کرنا، کو حاصل کرنا، بچانا، بچائے رکھنا، کے حفاظتی اقدامات کرنا، کو محفوظ رکھنا، کو سنبھال کر رکھنا۔ ـ علي: کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا۔ احترس من: سے بچنا، چوکس، چوکنا یا ہوشیار ہونا، میں بہت محتاط ہونا، کے خلاف حفاظتی انتظام کرنا۔ حَـرَس: پہرے دار، سنتری، حفاظتی دستہ، محافظ دستہ، باڈی گارڈ۔ الحرس السيَّار: قومی فوج، ملیشیا۔ حرس الشرف: گارڈ آف آنرز۔ الحـرس المَلَكي: شاہی محافظ۔ الحـرس الملوكي: "بے" کا باڈی گارڈ۔ الحَرَس الوطنـي: نیشنل گارڈ، قومی محافظ۔ حِـراسَة: نگہبانی، پہرے داری، پاسبانی، کنٹرول، تسلط، محافظ کا فریضہ، نگرانی، انتظام، محافظت، سرپرستی، حفاظت، داری کا پروانہ، بدرقہ، راہ کا نگہبان، انتظام، ریاست کا انتظام، کسی کی جائیداد وغیرہ پر اس وقت تک قبضہ کرنا جب تک وہ قرض وغیرہ کی ادائیگی نہ کرے۔ حِراسة السـواحـل: بحری پولیس (coast guard)۔ احترَاسًا من: کی سے حفاظت کے لئے۔ حارِس جمع حَـرَسَة و حُـرَّاس: چوکنا، چوکس، ہوشیار، چوکیدار، پہرے دار، سنتری، محافظ، نگران، ناظم، منصرم، مہتمم، ناظر، سرپرست، سرپرستانہ۔ حـارس التـركة: ریاست یا جاگیر کا منتظم۔ حـارِسُ الخوارِم: پہریدار۔ حـارِسُ المَرْمَى: گول کیپر۔ حـارِسٌ قضائي: کسی جائیداد وغیرہ پر اس وقت تک قانونی طور پر قابض جب تک قرض وغیرہ کی ادائیگی نہ ہو۔ (دیوالیہ پن یا غیر معین شرح سود کے حصوں میں)۔ مـلاك حـارس: محافظ فرشتہ۔ حـارس الليل: رات کا پہرے دار۔ مَحْرُوس: محفوظ، حفاظت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ کیا ہوا۔ شہروں کے ناموں کے بعد لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ المَحْرُوسون: بچے، کنبہ، خاندان۔ مُحْتَرِس محتاط، چوکس، چوکنا، ہوشیار۔

حرش ۱۔ حَرَشَ ـ حَرْشًا و تَحْراشًا و تَحْراشا الضبَّ: سوسمار کا شکار کرنا۔ تَحَرَّشَ الضبَّ و بالضبِّ: سوسمار کا شکار کرنا۔ اِحْتَرَشَ الضبَّ: سوسمار کا شکار کرنا۔ ۔ لعياله: اپنے اہل وعیال کے لئے کمانا۔ الحَرَّاش من الحيّات (ح): سیاہ پرانا سانپ۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ حَرَشَ - حَرْشًا و تَحْرَاشًا البعیرَ: اونٹ کو اس کی پیٹھ کی رسّی سے رگڑنا تا کہ وہ تیز چل سکے۔

۳۔ حَرَشَ ـ حَرْشًا و تَحْرَاشًا الرجلَ: کو خراش لگانا۔

۴۔ حَرَشَ - حَرَشًا: کھردرا ہونا صفت: أَحْرَشُ۔ الحَرِش: کھردرا۔ الحُرْشَة و الحَرَش: کھردراپن۔ الأَحْرَش جمع حُرْش: کھردرا (کہا جاتا ہے: دینار احرش: نیا کھردرا دینار) کھردری گوہ، سوسمار۔

۵۔ حَرِش - حَرَشًا الرجلُ: دھوکا دینا۔ حَرَّشَ بین القوم: لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اُکسانا۔ (اسی طرح کتوں وغیرہ کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کے معنی میں بھی آتا ہے)۔ اِحْتَرَشَ الرجلُ: دھوکا دینا۔ الحَرْش جمع حِراش: دھوکا۔

۶۔ تَحَرَّشَ بہ: کا مقابلہ کرنا، سے تعرض کرنا، متصادم ہونا۔

۷۔ اِحْتَرَشَ الشیءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ —— القومُ: لوگوں کا مجتمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الحَرْش جمع حِراش: جماعت۔

۸۔ الحَرْش جمع حِراش: اثر۔ الحَرِش: جسے نیند نہ آئے یا نہ آتی ہو۔ الحَرِیش جمع حُرُش (ح): کوڑیالہ سانپ۔ ایک دریائی جانور، گینڈا۔ الحَرِیْشَة (ن): ایک قسم کی نباتات۔ کہا جاتا ہے: اخرجتُ لہ حَرِیْشَتِیَ: جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے نکال کر اسے دے دیا۔

۹۔ الحُرْشُف: سخت زمین۔ الحَرْشَف جمع حَرَاشِف (ع ا): مچھلی کے کھپرے۔ (ح): ٹڈی جس کے ابھی پر نہ نکلے ہوں۔ (ح) چھوٹے پرندے۔ زرہ کی کڑیاں، کمزور اور بوڑھے لوگ (کہا جاتا ہے: لیس لھمّ غیر حَرْشَفِ رجال: وہاں سوائے کمزور اور بوڑھے لوگوں کے کوئی نہیں)، پیادوں کی جماعت۔ (ن): ایک قسم کی نباتات، ساحلِ سمندر کے پتھر۔

☆ حَرَشَ - حَرْشًا ہ/ہ: کو کریدنا، چھیلنا، نوچنا، کھرچنا، ناخن مارنا، پنجہ مارنا۔ حَرَّشَ ہ: کو اکسانا، ابھارنا، بھڑکانا، ترغیب دینا، ورغلانا، برانگیختہ کرنا، کو طیش میں لانا، غصہ دلانا، مشتعل کرنا۔ — بین: کے درمیان نا اتفاقی کا بیج بونا، ان بن یا جھگڑا کرا دینا، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دینا۔ تَحَرَّشَ ب: سے جھگڑا کرنا، سے دنگا شروع کرنا، کو طیش میں لانا، غصہ دلانا۔ حِرش و حُرْش جمع اَحْرَاش و حُرُوش: جنگل، جھاڑ جنگل۔ حَرِش و اَحْرَش: کھردرا، موٹا جھوٹا، ناہموار، نوکیلا، گٹھیلا۔ حَرَش، حُرْشَة و حَرَاشَة: کھردراپن، کرختگی، سختی، ناہمواری۔ تحریش: اکساہٹ، چھیڑنا، چھیڑ، اشتعال یا طیش دلانا، تحریک، ہیجان، ہلچل، اضطراب۔ تَحَرُّش: اشتعال، اصرار، ابرام، خواہ مخواہ دخل، بے جا مداخلت، دخل اندازی، دست اندازی، دخل در معقولات، کسی کام میں ٹانگ اڑانا۔ حَرْشَف جمع حَرَاشِف: مچھلی کے کھپرے۔

حرص: ۱۔ حَرَصَ ـ حَرْصًا الجلدَ: چمڑا چھیلنا۔ — القَصَّارُ الثوبَ: دھوبی کا کپڑے کو کوٹتے یا دھوتے ہوئے پھاڑ دینا۔ حُرِصَ المرعی: چراگاہ کو بالکل چر لیا جانا۔ الحَرْصَة و الحَارِصَة و الحَرِیصَة: وہ زخم جو چمڑے کو پھاڑ دے، وہ بادل جو سخت بارش سے زمین کو چھیل ڈالے۔

۲۔ حَرَصَ - و حَرِصَ ـ حِرْصًا و اِحْتَرَصَ علی الشیءِ: کی حرص کرنا، کا لالچ کرنا، کو بہت چاہنا، صفت: حَرِیص جمع حُرَصَاء و حِرَاص و حُرَّاص مؤنث: حَرِیْصَة جمع حِرَاص و حَرَائِص۔ حَرَّصَ ہ علی الشیء: کسی شخص کے کسی چیز کے لالچ کو تقویت دینا، اور اس سے لگاؤ اور بخل کو بڑھانا، کو کا مشتاق بنانا، کو کا حرص و لالچ دلانا۔ تَحَرَّصَ: بتکلف لالچ کرنا۔ الحِرص (مص): لالچ، بخل۔

۳۔ تَحَرَّصَ: وقت کا انتظار کرنا۔ ھو یتحرص غداء ھم و عشاء ھم: وہ ان لوگوں کے صبح و شام کے کھانے کے وقت کی تاک میں رہتا ہے۔

◯ حَرَصَ - و حَرِصَ ـ حِرْصًا علی: کی خواہش کرنا، کو چاہنا، کا لالچ کرنا، کی تمنا کرنا، کو طلب کرنا، کا حاجتمند ہونا، کا اشتیاق رکھنا، کی آرزو رکھنا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، پر ہمہ تن متوجہ ہونا، پر تلا ہوا ہونا، کے لئے جدوجہد کرنا، سخت کوشش کرنا، کا متمنی ہونا، کی آرزو کرنا۔ حِرص: لالچ، طمع، دلدادگی، شیفتگی، حرص، خواہش، آرزو، تمنا، جدوجہد، دوڑ دھوپ، سعی و کوشش (صلہ علی کے ساتھ)۔ حِرْصًا علی: کی خواہش میں، کی کوشش میں۔ حِرْصًا علی الارواح: خطرہ! (ٹریف کے نشانات پر انتباہ کے طور پر لکھا جاتا ہے)۔

حرض: ۱۔ حَرَضَ ـ حُرُوضًا و حَرِضَ ـ حَرَضًا و حَرُضَ ـ حَرَاضَةً: بری بیماری میں مبتلا ہو کر لاغر ہونا [illegible] صفت: حَارِض و حَارِضَة: کہا جاتا ہے: ناقة حَرْضٌ: لاغر و ناتواں اونٹنی۔ حَرَضَ - حَرْضًا نفسَہُ: اپنی جان کو خراب کرنا۔ حَرَّضَ الشیءَ: کو خراب کرنا، بگاڑنا۔ — فلانًا: کی بدنی یا عقلی خرابی کو دور کرنا۔ أُحْرِضَ ہ الحزنُ او المرضُ: غم یا بیماری کا بدن کو گھلا دینا۔ الحَرَض (مص): بدن، مذہب یا عقل کی خرابی۔ الحِرْضَة جمع حِرَض: رذیل ناقص الحال آدمی جس کو کوئی پاس نہ آنے دے۔ المُحَرَّض: جسے غم نے گھلا دیا ہو۔

۲۔ حَرِضَ ـ حَرَضًا: گر پڑنا اور اٹھ نہ سکنا۔ أَحْرَضَ ہ: کو گرانا۔ المُحَرَّض و الحَرِیض: گرا ہوا جو اٹھ نہ سکے۔

۳۔ حَرَّضَ ہ علی الأمر: کو کسی بات پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔ أَحْرَضَ ہ علی الشیءِ: کو کی ترغیب دینا۔ تحارضوا علی العمل: ایک دوسرے کو کام پر برانگیختہ کرنا۔

۴۔ حَارَضَ علی العمل: پر ثابت قدم رہنا۔

۵۔ حَارَضَ فلانًا: تیر کی چھڑ سے ایک دوسرے کو مارنا۔

۶۔ الحُرْض و الحُرُض: اشنان جس سے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ حَرَضُ الثوب: کپڑے کا حاشیہ۔

☆ حَرَّضَ ہ علی: کو پر اکسانا، برانگیختہ کرنا، مہمیز کرنا، ابھارنا، کو کی ترغیب دینا، کی میں اعانت کرنا، کو پر جوش میں لانا، کو پر متحرک کرنا۔ تحریض: اکساہٹ، ترغیب، اشتعال انگیزی، اشتعال انگیزیات۔ —— علی: پر ترغیب، انگیخت، تحریک (ارتکاب جرم میں) اعانت، مدد، پر ہلچل، اضطراب، پریشانی، شورش، کے خلاف اشتعال انگیز پروپیگنڈا۔ تَحْرِیضِیّ: اکسانے والا، ابھارنے والا، ہیجانی، ہیجان پیدا کرنے والا، اشتعال انگیز، برانگیختہ کرنے والا، آتش افروز۔ حارِض: برا، خراب، پاپی، بدکار، بداعمال، نقصان رساں، مضر۔ مُحَرِّض: اکسانے والا، ترغیب دینے والا، اعانت جرم کرنے والا، جذباتی تقریریں کرنے والا، لوگوں کو اشتعال دلانے والا مقرر، تحریک میں حصہ لینے والا، اشتعال دلانے والا۔

حرف: ۱۔ حَرَفَ ـ حَرْفًا الشیء عن وجھہ: کو پھیر دینا، جھکا دینا۔ — عن الشیء: سے انحراف کرنا۔ حَرَّفَ الشیءَ: کو جھکانا، کا کنارہ بنانا۔ — القلمَ: قلم کو ٹیڑھا قط دینا۔ — القولَ: بات کو بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ تَحَرَّفَ عنہ و اِنْحَرَفَ و اِحْرَوْرَفَ: سے جھک کر ایک طرف ہو جانا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الحَرْف　جمع حِرَف:　کنارہ، دھارا، سرا، حَرْفُ الجَبَل:　پہاڑ کا تیز سرا، پہاڑ کی نکیلی چوٹی۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ علی حرفٍ مِن امرہ:　فلاں شخص معاملہ کے کنارے پر ہے یعنی اگر کوئی چیز بھی خلاف خاطر ہوئی تو وہ فوراً اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ حَرْفُ النهر　دریا کا کنارہ۔

۲۔حَرَفَ - حَرْفًا لعیالہ　اپنے عیال کے لئے اِدھر اُدھر سے کما کر لانا۔ أَحْرَفَ:　اہل وعیال کے لئے محنت ومشقت برداشت کرنا۔ تَحَرَّفَ لعیالہ:　ہر پیشہ سے عیال کے لئے کمائی کرنا۔ اِحْتَرَفَ:　کوئی پیشہ اختیار کرنا۔ ۔ لأهله:　اپنے گھر والوں کے لئے کمائی کرنا۔ الحِرْفَة　جمع حِرَف:　پیشہ، ہنر، کمانے کا طریقہ۔ المَحْرِف و المُحْتَرَف:　کمائی کرنے کی جگہ، ادھر ادھر حرکت کرنے اور عمل کرنے کی جگہ۔ یہ دونوں　لفظوں بالعموم ماہرانہ دستکاری سے خاص ہیں۔ حَرِيفُ الرجل　جمع حُرَفاء:　ہم پیشہ۔ المُحْتَرِف:　پیشہ ور۔

۳۔حُرِفَ فی مالہ حَرْفَةً:　کے مال میں سے کچھ ضائع ہونا۔ المُحَرَّف:　جس کا مال جاتا رہا ہو۔

۴۔حَارَفَ الجرحَ:　زخم کو سلائی سے ٹٹول کر اس کا اندازہ کرنا۔ المِحْرَف و المِحْرَاف:　زخم کی گہرائی کا اندازہ کرنے کی سلائی۔

۵۔حَارَفَ الرجلَ:　کو بھلائی یا برائی کا بدلہ دینا۔ ۔ ہ:　کے ساتھ کاروبار کرنا، معاملہ کرنا، برتاؤ کرنا۔ شاعر کہتا ہے: فقد علموا فی الغزو کیف نحارف:　ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لڑائی میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ أَحْرَفَ الرجلَ:　کو بھلائی یا برائی کا بدلہ دینا۔

۶۔أَحْرَفَ:　بدحالی کے بعد خوش حال ہونا۔

۷۔أَحْرَفَ الناقةَ:　اونٹنی کو دبلا کرنا۔

۸۔تَحَارَفَ علیہ فی البیع وغیرہ:　سے فروخت میں ہیرا پھیری کرنا۔ اِحْتَرَفَ:　تلاش کرنا، حیلہ کرنا۔

۹۔الحُرْف　واحد حُرْفَة (ن):　رائی، کالی مرچ کے دانے، ہڑدی۔ الحَرْف　جمع حِرَف:　پانی کی گذرگاہ۔ ۔ جمع حُرُوف و أَحْرُف:　حروف تہجی میں سے ایک حرف جس کو حرف المبنی کہتے ہیں ۔۔ فی النحو:　وہ کلمہ جو دوسرے سے مل کر معنی دے اور اس کا نام حرف المعنی ہے۔ کلمہ، جیسے کہتے ہیں ھذا الحرف لیس فی القاموس:　یہ کلمہ (لفظ) ڈکشنری میں نہیں ہے۔ الحُرْفَة:　محرومی، بدبختی۔

المُحَارَف:　محروم، پھوٹی قسمت والا۔ الحَرَافَة:　(ذائقہ کی) جلن، تیزی تلخی۔ الحِرِّيف:　تلخ، جلن دار، تیز۔ کہتے ہیں: ھذا بصلٌ حِرِّيف:　یہ پیاز تیز ہے۔

ن حَرَّفَ ہ:　کو ڈھلوان کرنا، ترچھا کرنا، جھکانا، ترچھا بنانا، خم دار بنانا، خم کرنا، موڑنا، کا حلیہ بگاڑنا، بات کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے بارے میں غلط بیانی کرنا، میں کھینچ تان کر بیان کرنا، کے بارے میں غلط تاویل کرنا، کے غلط معنی لینا، کا غلط معنی نکالنا، کو کچھ کا کچھ سمجھنا، کی غلط تفسیر کرنا، سے غلط نتیجہ نکالنا، کو بگاڑنا، گھڑنا، میں ردوبدل کرنا اور کے متعلق غلط بیانی کرنا۔ حَرَّفَهُ عن موضعہ:　کا مفہوم بگاڑنا، توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے صحیح معنی چھین لینا۔ تَحَرَّفَ:　ایک راستہ چھوڑ کر دوسرے پر سفر کرنا، ایک سڑک سے دوسری کی طرف مڑنا، مُڑنا۔ ۔ عن:　سے منحرف ہونا، ہٹنا، تجاوز کرنا، انحراف کرنا، (اصل موضوع سے) ہٹنا، سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا ۔۔ حلیہ بگڑا ہونا، مسخ شدہ ہونا، توڑ مروڑ کر بیان کیا ہوا ہونا، میں غلط بیانی کی گئی ہونا، بگڑا ہوا ہونا، خراب ہونا، غلط تاویل کیا گیا ہونا، راہِ راست سے بھٹکا ہوا ہونا۔ اِنْحَرَفَ:　مڑنا ۔ عن:　سے ہٹنا، منحرف ہونا، تجاوز کرنا، انحراف کرنا، اعراض کرنا۔ ۔ اِلی:　کی طرف مڑنا، کا رخ کرنا۔ ۔ ب:　کو ترچھا دکھانا، ڈھلوان ظاہر کرنا، توڑا مروڑا ہوا دکھانا، خراب دکھانا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا دکھانا۔ ۔ بہ عن:　کو سے باز رہنے کو کہنا، کو کے خلاف مشورہ دینے سے روکنا۔ اِنْحَرَفَ مزاجُه:　کی طبیعت کا ناساز ہونا، کا بیمار ہونا ۔۔　ترچھا ہونا، ڈھلواں ہونا، ٹوپی کا ٹیڑھا یا بانکا ہونا۔ اِحْتَرَفَ ہ:　کوئی کام پیشہ کے طور پر کرنا ۔۔　کامیابی کے لئے جدوجہد کرنا۔ حَرْف　جمع حِرَف:　(چاقو، تلوار کی) دھار تیز کنارا، حد، سرحد، کنارا (پیالے، پہیے وغیرہ کا)، کنارا (جیسے برلب...... میں) کنارہ (جیسے مصیبت کے کنارے پر)۔ جمع حُرُوف و أَحْرُف:　حرف، حرف صحیح، حرف (گرامر میں اسم، ضمیر، صفت یا فعل کے علاوہ) ٹائپ(type) ۔ علی حرفٍ:　غیر مستقل مزاج، متلون، مذبذب، کچے ارادے کا، ڈگمگ، پس وپیش میں، غیر جانبدار۔ الفاظُهُ بحُروفِها:　واقعی اس کے الفاظ بالحرف یا بالحرف الواحد:　لغوی معنی میں، حقیقی معنی میں، لفظی طور پر، واقعی، سچ مچ، من وعن، عین مین، بالکل، ہو بہو، لفظ بلفظ، حرف بحرف، بعینہٖ، حَرْفًا بحرفٍ لفظ بلفظ، لفظی طور پر۔ وقّع بالأحرف الأولى معاهدةً:　معاہدہ پر مختصر دستخط کرنا، معاہدہ پر مخفف دستخط کرنا، چھوٹے دستخط کرنا (to initial)۔ الحروف الأبجدية:　حروف ابجد۔ الحروف الشمسية　شمسی حروف، وہ حروف جن پر ا ل داخل ہو تو ان حروف کے ساتھ مل جائے۔ جیسے الناس میں تلفظ (انّاس) ہوگا۔ الحروف القمرية:　قمری حروف وہ حروف تہجی جن میں ال داخل کیا جائے تو وہ ان سے علیحدہ رہے جیسے القمر میں (تلفظ ا ل قمر ہوگا)۔ حرف الجرّ:　حرف جار جو ان الفاظ میں جن سے پہلے آئے آخری حرف کو زیر یا دو زیریں دے جیسے فی الكتابِ (کتاب میں) فی کتابٍ (ایک کتاب میں)۔ اسے حرف الخفض بھی کہتے ہیں۔ حرف التعریف:　ال جیسے قلم سے القلم میں۔ اس سے نکرہ معرف ہو جاتا ہے۔ حرف العطف:　دو لفظوں یا جملوں کو جوڑنے میں جو لفظ استعمال کیا جائے جیسے و (اور) حرف الاستفهام: سوال کرنے کے لئے جو حرف استعمال کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں۔ جیسے مَنْ (کون)، ما (کیا)۔ حرف القسم:　وہ حرف جس سے قسم کھائی جائے جیسے واللہ میں واو قسمیہ ہے۔ حَرْفي:　حرفی، لفظی۔ حِرْفَة:　پیشہ، کاروبار، فن، ہنر، تجارت۔ حَرِيف　جمع حُرَفاء:　مستقل خریدار، مربی، سرپرست، گاہک۔ حِرِّيف:　تیز، چبھتا ہوا، تلخ (ذائقہ)۔ حِرِّيفات:　مسالہ دار، چٹ پٹا یا خوشبودار کھانا، مزے کی چیز، نفیس غذا۔ مُحْتَرِف ب:　میں منفعت بخش طور پر لگا ہوا، پیشہ کے طور پر کوئی کام کرنے والا۔ صحافی محترف ب:　پیشہ ور صحافی۔ محترف:　پیشہ ور، دنیا میں ابھرنے کا متمنی، جسے صرف اپنی ترقی سے غرض ہو، ابن الوقت، مفاد پرست۔ مُحْتَرَف　جمع مُحْتَرَفات:　سٹوڈیو، اٹیلیر: وہ کمرہ یا عمارت جس میں کوئی فن کار، مصور یا نقاش کام کرتا ہے۔

حرق:　حَرَقَ ـ حَرْقًا ہ بالنار:　کو آگ سے جلانا۔ حَرَّقَ و أَحْرَقَ ہ بالنار:　کو آگ سے جلانا۔ تَحَرَّقَ و اِحْتَرَقَ:　آگ سے جلنا۔ الحَرْق و الحَرَق (مص):　جلن۔ الحُرْقَة و الحَرْقَة:　جلن، حرارت۔ کہا جاتا ہے فی جوفہ حرقة:　اس کے پیٹ میں گرمی ہے۔ الحُرُوق و الحَرُّوق:　سوختہ چقماق۔ الحَرِيق　جمع حَرْقي:　آگ لگنا، جلا ہوا۔ وہ جگہ جہاں آگ لگی ہو، گرمی وسردی وغیرہ سے جلی ہوئی نباتات، آگ کی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بھڑک، آگ کا شعلہ۔ الحُراق و الحِراق: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ الحَرِيقَة جمع حَرَائِق فی اصطلاح العامّة: کسی جگہ آگ کا لگنا، حرارت۔ ـــ و الحَرُوقَة: پانی ابال کر اس میں آٹا ڈالنے سے تیار کردہ ایک قسم کا کھانا۔ الحَرَّاقَة جمع حَرَّاقات: آگ پھینکنے والی کشتی۔ تارپیڈو (torpedo)۔ ـــ عند العامة: جلد پر اُسے صاف کرنے کے لئے رکھی جانے والی چیز۔ المُحْرَقَة جمع مُحْرَقات: سوختنی قربانی، ہون۔

۲- حَرَقَ ـ حَرْقًا ہ بالمِبْرَد: کو ریتی سے رگڑنا۔ ـــ الشيءَ: کسی چیز کے ایک حصہ کو دوسرے سے رگڑنا۔ ـــ ـ حَرْقًا و حَرِيقًا و حُرُوقًا نابَهُ عليه: پر دانت پیسنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يحرق عليَّ الأُرَّم: وہ میرے اوپر مارے غصہ کے دانت پیستا ہے۔ المِحْرَق: ریتی۔

۳- حَرِقَ ـ حَرَقًا شَعْرُهُ: کے بالوں کا کٹ جانا یا گر جانا، جس کے بال کٹ گئے یا گر گئے ہوں اُسے حَرِقُ الشَّعر کہا جاتا ہے۔ الحَرَق: چھوٹے بال۔

۴- حَرِقَ و حُرِقَ: کے پاؤں کے پٹھے یا رگ کا کٹا ہوا ہونا۔ الحَارِقَة: پاؤں کا پٹھا یا پاؤں کی رگ۔ الحُرْقَة و الحَارُوقَة و الحُرَّاقَة من السيوف: تیز کاٹنے والی تلوار۔

۵- حَرَقَ المرعَى الإبلَ: چراگاہ کا اونٹوں کو پیاس لگانا یا پیاسا کرنا۔

۶- الحَرِق: بہت بجلی چمکانے والا بادل۔ الحُرَاق و الحُرَّاق: بہت کھاری پانی۔ الحُرَاق و الحِراق: ہر شئے کو خراب کرنے والا۔ حُراقُ اصبعه: عام لوگوں کے ہاں ایک معروف کھانے کا نام۔

۷- الحِرْقِد جمع حَرَاقِد: زبان کی جڑ۔ الحُرْقُدَة: حلق کی گرہ۔

۸- حَرْقَصَ فی المشي: چلنے میں چھوٹے قدم رکھنا۔ ـــ الكلامَ: جلدی جلدی بولنا۔ ـــ ہ: پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، کو تنگ کرنا۔ ـــ اللحمَ و نحوه: گوشت وغیرہ کو تلنا۔ الحُرْقُوص جمع حَرَاقِيص (ح) پسّو کے مانند ایک کیڑا، چابک کا سرا۔ ـــ و الحرصوص: تلے ہوئے گوشت کی ایک چھوٹی بوٹی۔

۹- الحُرْقُفَة جمع حَرَاقِف و حَرَاقِيف (ع ا) سرین کی ہڈی کا سرا۔ الحُرْقُوف (ح) لاغر جانور۔

☆ حَرَقَ ہ: کو جلانا۔ ـــ: جلنا، چوٹ کھانا، اذیت محسوس کرنا، میں ٹیس اٹھنا، چست و چالاک ہونا۔ حرق قلبَهُ جمع حرق قلوبَهُم: کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، کو غصہ یا اشتعال دلانا، بھڑکانا۔ ـــ ـ حَرْقًا ہ: کو اکھاڑ کر گرانا۔ حَرَّقَ ہ: کو جلانا۔ ـــ اَسْنَانَهُ: دانت پیسنا۔ أَحْرَقَ ہ: کو جلانا، کو آگ سے برباد کرنا، کو جھلسانا، جلا کر سیاہ کرنا، کو جھلس دینا، کو بھوننا، کو گرم پانی سے دھونا، کو ابالنا، جوش دینا، کو آگ لگانا، سلگانا، تپانا۔ اَحْرَقَ فَحْمَةَ لَيْلِهِ فِي: کوئی کام کرتے ہوئے رات گزار دینا، رات گئے تک مطالعہ یا کام کرتے رہنا۔ تَحَرَّقَ: جلنا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، مشتعل ہونا، گرم ہو کر تباہ ہو جانا، آگ پکڑنا، آگ سے بھسم ہو جانا، خاک سیاہ ہو جانا، برباد ہو جانا، احساس، جذبہ سے بھر جانا۔ ـــ ہ: سے گھل گھل کر مر جانا، سے بہت ناراض ہونا، ناخوش ہونا۔ تَحَرَّقَ شوقًا: بڑی خواہش، بڑی آرزو یا وطن کی یاد سے نڈھال ہونا۔ اِحْتَرَقَ: جلنا، شعلہ زن ہونا، مشتعل ہونا، گرم ہو کر تباہ ہو جانا، میں آگ لگنا، آگ سے بھسم ہو جانا، خاک سیاہ ہو جانا، برباد ہو جانا۔ حَرْق: جلنا، خاکستر کر دینا، عمل احتراق، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بجھنا، آگ جلانا، آگ لگانا، آگ لگنا، آتش زنی جمع حُرُوق جلن۔ حَرَق: آگ، آتش، بھابڑ، آتش زدگی۔ حُرْقَة و حَرْقَة: جلنا، خاکستر کر دینا، جلنا، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بجھنا، اذیت، ٹیس، جلن، تکلیف، سوہان روح، روحانی اذیت، درد و کرب، سخت امتحان، کڑی آزمائش۔ حُرَاق و حُرَّاق: آگ پکڑنے والی کوئی سوکھی چیز، سوختہ۔ حَرَّاق جلتا ہوا، شعلہ زن، گرم۔ حَرِيق و حَرِيقَة جمع حَرَائِق: آگ، آتش، بھابڑ، آتش زدگی۔ حَرَّاقَة تارپیڈو۔ حَرَقان: جلنا، پاؤں میں درد۔ مَحْرَق جمع مَحَارِق: نقطہ ماسکہ، مرکز۔ تَحَارِيق دریائے نیل کے انتہائی نچلی سطح پر پہنچنے کا موسم، سال کا گرم ترین موسم۔ تَحَرُّق اِلى: کے لئے سخت آرزو۔ تَحَرُّق: جلنا، جلانا، خاکستر کر دینا۔ تحرُّق جلنا، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بجھنا۔ اِحراق: جلنا، جلانا، خاکستر کر دینا۔ تحرُّق جلنا، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بھنا۔ اِحْتِرَاق: جلنا، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بجھنا، آگ، آتش، بھابڑ، آتش زدگی۔ غُرفة [illegible] جلا کر حرارت اور روشنی پیدا کی جاتی ہے۔ قابل الاحتراق: آتش گیر۔ حَارِق: جان بوجھ کر کسی عمارت وغیرہ کو آگ لگانے والا، آتش انداز، آتش زن، جلانے والا۔ مَحْرُوق: جلا ہوا، جل کر کوئلہ ہونے والا جھلسا ہوا، بھونا ہوا، سرخ گوں، سرخی مائل، کانسی کے رنگ کا جمع مَحْرُوقات: ایندھن۔ فَخَّارٌ مَحْرُوقٌ: آگ میں تپائی ہوئی مٹی۔ قُنْبُلَةٌ مُحْرِقَة: آگ لگانے والا بم۔ مُحْرَق: مسان، لاش بھٹی۔ مُحْرَقَة: سوختنی قربانی۔

○ حَرْقَدَة جمع حَرَاقِد: کنٹھ، کنٹھا۔

○ حَرْقَفَة جمع حَرَاقِف: کولہے کی ہڈی کا باہر کو نکلا ہوا حصہ۔

حرك ۱- حَرَكَ ـ حَرْكًا: ادائیگی حق سے رکنا۔

۲- حَرَكَ ـ حَرْكًا: کے شانوں میں درد ہونا۔ ـــ ہ: کے شانوں پر مارنا۔ ـــ غارِبَه: کے شانوں کو کاٹنا۔ ـــ ہ بالسيف: کی گردن مارنا۔ حَرِكَ ـ حَرَكًا: کے پہلوؤں یا شانوں کا کمزور ہونا۔ صفت: حَرِيك مؤنث حَرِيكَة۔ الحَارِك (ا): شانہ۔ المَحْرِك: گردن اور سر کے جوڑ کی جگہ۔

۳- حَرُكَ ـ حَرَكًا و حَرَكَةً: ہلنا، حرکت کرنا۔ حَرَّكَ ہ: کو ہلانا، حرکت دینا۔ تَحَرَّكَ: ہلنا، حرکت کرنا۔ کہا جاتا ہے: حَرَّكَ مِنِّي الامرُ: معاملہ نے مجھ کو بے چین کر دیا، میں معاملہ سے بے چین ہو گیا۔ الحَرَكَة: ہلنا، حرکت۔ الحركة اليومية الظاهرة (فلك): خیالی کرہ سماویہ کی کائنات کے محور کے گرد حرکت، جس کی وجہ زمین کا اپنے محور کے گرد گردش بتائی جاتی ہے اس گردش میں تقریباً ۳ منٹ، ۵۶ سیکنڈ کم ۲۴ گھنٹے لگتے ہیں۔ الحَرَاك: حرکت، ہلنا۔ الحَرِك: ہلکا پھلکا، چست، تیز خاطر۔ کہا جاتا ہے: غلام حَرِك: سبک و تیز خاطر لڑکا۔ المِحْرَاك: کریدنی، ہلانے کی چیز۔ المُحَرِّك جمع مُحَرِّكات: (ہوائی جہازوں، کاروں موٹر سائیکلوں وغیرہ کا) انجن، موٹر۔

☆ حَرَّكَ ہ: کو ہلانا، حرکت دینا، (کار وغیرہ) چلانا، چالو کرنا، ڈرائیو کرنا، کو آگے کو دھکیلنا، (مشین وغیرہ) چلانا۔ ـــ ہ (فوج) کو چلانا، متحرک کرنا، حرکت میں لانا، ـــ ہ: کو حرکت دینا، ہلانا، کو شروع کرنا، (گاڑی انجن) سٹارٹ کرنا، کو ابھارنا، میں تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا، برانگیختہ کرنا، میں ہلچل ڈالنا، اضطراب پیدا کرنا، کو مضطرب کرنا، بے چین کرنا، کو ہیجان میں لانا۔ ـــ ہ علی: کو پر اکسانا، برانگیختہ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا، ابھارنا، کوئی شہ دینا، کوئی ترغیب دینا، کو پر بھڑکانا، ورغلانا، آمادہ کرنا، سے کا تقاضا کرنا۔ — ہ: کو ہوشیار کرنا، خبردار کرنا، جگانا، سلگانا، برانگیختہ کرنا، جوش میں لانا، بھڑکانا۔ — ہ: کو حرکت دینا۔ **حَرَّكَ مشاعرہ:** کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے رکھنا، میں جذبات کی لہر دوڑا دینا، کے دل میں اتر جانا، ہیجان پیدا کرنا، برانگیختہ کرنا۔ **حَرَّكَ العواطِفَ:** احساسات و جذبات پر اثر انداز ہونا، رقت انگیز ہونا، پر درد ہونا، موثر ہونا، دل گزار ہونا، پراثر ہونا، دل سوز ہونا، دل پر اثر کرنے والا ہونا۔ **لایُحَرِّكُ ساكِنًا:** وہ سر کتا ہی نہیں، وہ غیر متحرک رہتا ہے، بے حس، کٹھور یا سرد مہر رہتا ہے۔ **حَرَّكَ ساكِنَهُ:** کو بےدار کرنا، جگانا، کو بھڑکانا، جوش دلانا، ہیجان میں لانا۔ **تَحَرَّكَ:** ہلنا، حرکت کرنا، چالو ہونا، سرکنا، ہٹنا، چلنے یا حرکت کرنے لگنا، روانہ ہونا، (مسافر کا) سفر پر ہونا، (ریل گاڑی کا) روانہ ہونا (جہاز کا) سمندری سفر شروع کرنا یا سمندری سفر پر جانا یا چلنا، چالو ہونا، (کار وغیرہ کا) ڈرائیو کیا جانا، (مشین کا) چلایا جانا، پریشان ہونا، جوش میں ہونا، ہیجان پیدا کیا جانا، تحریک پیدا کیا جانا، آمادہ ہونا، بیدار ہونا، برانگیختہ ہونا، بھڑکنا، سلگنا، مستقل ہونا، ظہور میں آنا، بروئے کار ہونا۔ **حَرِكٌ:** فعال، خوش طبع، زندہ دل، تیز، ذہین، تیز فہم۔ **حَرَكَة** جمع **حركات:** حرکت، جنبش، تحریک، (فوجی) نقل و حرکت، مشین کے پرزوں کا عمل، چال، رفتار، گردش، گڑبڑ، کھلبلی، اچھل، ہنگامہ، افراتفری، شورش، بے قراری، بے کلی، جسمانی ورزش، ہیجان، ترنگ، پالیسی طریق کار، طریق عمل، کارروائی، دستور العمل، فعل، عمل، کام، مہم، فوجی نقل و حرکت، جاری رہنا، ترقی، ہونا، آمدورفت (ریل، جہازوں، گلی سڑک کی)۔ **فی حركاته و سكناته:** اس کے تمام کاموں یا کرتوتوں میں، ہر صورت حال میں۔ **حركة المرور:** آمدورفت ٹریفک۔ **حركة المراكب:** بحری جہازوں کی آمدورفت۔ **حركة البضائع:** سامان تجارت کا تبادلہ۔ **حركة الاموال:** مقررہ وقت کی بکری (turnover)۔ **الحركة النِسْوِيَّة:** مساوات نسواں کی حامی تحریک۔ **خَفِيفُ الحركة:** پھرتیلا، چست و چالاک، لچکیلا، نرم، ملائم، ہلکا، تیز، ہوشیار، مستعد۔ **ثَقِيلُ الحركة:** حرکت میں سست، دھیما، مٹھا، لوگوں کے احساسات سے متاثر نہ ہونے والا، بے ہمت، ناموزوں، بے تکا، بھاری قدموں سے چلنے والا، غیر متحرک، بے عمل، سست، کاہل، آرام طلب۔ **حَرَكِيّ:** حرکت کا، متحرک۔ **حَرَاك:** حرکت، نقل و حرکت، جنبش، چال، رفتار، گردش۔ **مُتَحَرَّك:** راستہ، گولی، گولے وغیرہ کا خط حرکت۔ **مِحْرَاك:** آگ کریدنی۔ **تَحْرِيكِي:** حرکت دینے والا، اثر آفریں، قوت عمل کا حامل، قوت آفریں۔ **تَحَرُّك** جمع **تَحَرُّكات:** حرکت، نقل و حرکت، جنبش، چال، رفتار، گردش، آگے کی طرف بڑھنا، آغاز، روانگی، (جہازوں کا) سمندر میں چلنا۔ **حَارِك:** کندھوں کے درمیان گھوڑے کی پیٹھ کا بلند ترین حصہ۔ **مُحَرِّك:** تحریک کرنے والا، برانگیختہ کرنے والا، اکسانے والا، ابھارنے والا، بھڑکانے والا، جگانے والا، سبب، عامل (جمع عوامل) (جمع **مُحَرِّكات**)۔ **مُحَرِّك**، وجہ، مہیج، شوق و جذبہ، مہمیز، محرک حالات، عملی یا سببی عامل، موثر، انجن۔ **مُتَحَرِّك:** حرکت کناں، متحرک، منقولہ، چلنے پھرنے والا، نقل پذیر، حرکت پذیر۔ **صُوَر متحرِّكة:** فلم motion pictures, movies۔

☆ **حَرْكَثَ (و حَرْكَش):** مشتعل کرنا، اکسانا، دل میں اتر جانا، اثر کرنا، ہیجان پیدا کرنا۔

حرم: ا۔ **حَرَمَ ـِ و حَرِمَ ـَ حِرمًا و حَرِيمًا و حِرْمانًا و حَرِمًا و حِرْمَةً و حَرِيمَةً ہ الشيءَ:** کو سے روکنا، منع کرنا، محروم کرنا۔ **حرم الاسقف فلانًا:** لاٹ پادری کا کسی کو ایمان داروں کے ساتھ شرکت کرنے سے منع کرنا۔ ایسا شخص محروم کہلاتا ہے۔ **حَرُمَ ـُ حَرَمًا و حَرَامًا و حَرُمَ ـَ حُرمًا و حُرُمًا و حُرْمَةً و حَرِمَةً و حَرَامًا عليه الامرُ:** پر کوئی امر حرام ہونا۔ **حَرَّمَ:** ماہ حرام میں داخل ہونا۔ — **الشيءَ:** کو حرام ٹھہرانا۔ **أَحْرَمَ:** ماہ حرام میں داخل ہونا، حرم یا ایسی حرمت میں داخل ہونا جس کی بے حرمتی حرام ہے، محفوظ ہونا۔ — **الشيءَ:** کو حرام ٹھہرانا۔ — **عن الشيءِ:** سے رکنا، باز رہنا۔ **تَحَرَّمَ منه بِحُرْمَةٍ:** کسی کی ذمہ داری میں آ کر محفوظ و مامون ہونا۔ — **به:** کے ساتھ زندگی گزارنا اور آپس میں حرمت کا پختہ و مضبوط ہونا۔ کہا جاتا ہے: **تَحَرَّمْتُ بطعامِك و مَجالِسِك:** ساتھ کھانا کھانے اور بیٹھنے سے اب تمہارا مجھ سے اس چیز کا لینا جائز نہیں رہا، جس کا پہلے لینا روا تھا۔ **اِحْتَرَمَ ہ:** سے ڈرنا اور اس کی حرمت و عزت کا لحاظ رکھنا۔ —— **الشيءَ:** سے محروم ہونا، یہ دونوں معنی اس قول میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ **لاتحترِم فتحترم:** خوف نہ کرو ورنہ [illegible] ہو گے۔ [illegible] **الشيءَ:** کو حرام سمجھنا۔ **الحُرُم:** جمع کا احرام (اس کے مقابل حِل ہے)۔ **الحُرُم:** ایک مرد کی بیویاں۔ **الاشهُرُ الحُرُم:** ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کیوں کہ عرب ان مہینوں میں لڑائی کو بند رکھتے تھے۔ **الحَرَم** جمع **احرام:** جس کا بچاؤ اور دفاع کیا جائے، جس کی بے حرمتی جائز نہ ہو۔ **الحَرَمُ الأقصى:** بیت المقدس۔ **الحَرَمان:** مکہ اور مدینہ۔ **الحِرم** جمع **حُرُم:** حرام، احرام کا عرصہ، واجب جس کا ترک کرنا جائز ہو۔ **الحِرمان:** محرومی، عدم رزق۔ **الحُرْمَة و الحُرُمة و الحُرُمَة** جمع **حُرَم و حُرُمات و حُرُمات:** حقوق اللہ جن کا ادا کرنا فرض اور نظر انداز کرنا حرام ہے، جس کی بے حرمتی جائز نہیں، ذمہ، عظمت، ہیبت۔ **حُرْمَةُ الرجل:** بیوی۔ **الحُرْمَة:** حفاظت۔ **الحَرَام:** خلاف حلال۔ کہا جاتا ہے: **حرام الله لا افعل هذا:** خدا کی قسم میں ایسا کروں گا نہیں جس طرح کہتے ہیں: **يمينُ اللهِ لا افعل**۔ کہا جاتا ہے: **رجل حرام و قوم حرام:** دونوں جگہ واحد کی شکل میں آتا ہے کیونکہ یہ دراصل مصدر ہے معنی احرام باندھنا والا اور احرام باندھنے والے۔ **الشهرُ الحَرام:** محرم کا مہینہ۔ **البَلَد الحَرام:** مکہ۔ **المسجد الحرام:** کعبہ۔ **الحَرِيم** جمع **حُرُم و أَحْرُم و أَحارِيم:** حرام شے جس کو بسبب حرمت چھو نہ سکیں، شاہی محل کے گردا گرد وسیع جگہ۔ احرام باندھنے والے کا کپڑا، ہر وہ جگہ جس کی حفاظت واجب ہو۔ **حَرِيمُ الرجل:** آدمی کی قابل حفاظت چیز اس لئے آدمی کی بیویوں کو حریم کہتے ہیں۔ **الحَرِيمَة:** نہ حاصل ہو سکنے والی مرغوب چیز۔ **المُحْرِم:** وہ شخص جو کسی کی پناہ اور حفاظت میں ہو۔ کہا جاتا ہے: **انه لَمُحْرِمٌ عنك:** اس کی تکلیف تم پر حرام ہے۔ **المَحْرَم** جمع **مَحارِم:** حرام، ناجائز کام، جرم۔ **مَحارِمُ اللَّيل:** رات کے خطرات۔ **الحَرامِيّ:** حرام کار، چور۔ **المَحْرُمَة** اور **المَحْرُمَة** جمع **مَحارِم:** وہ چیز جس کی بے حرمتی جائز نہ ہو۔ **مُحَرَّم:** قمری سال کا پہلا مہینہ، حرمت والا۔ **المَحْرُوم:** خیر و بھلائی سے محروم، وہ شخص جس کا مال نہ بڑھے، وہ بدقسمت جو کمانے سے عاجز ہو۔ **المُحْتَرَم:** جناب۔

۲۔ **حَرِمَ ـَ حَرَمًا و حَرَامًا في القِمار:** جوئے میں ہارنا۔ **حَرَّمَ و أَحْرَمَ ہ في القِمار:** سے جوئے جیت جانا۔ **الحُرْمَة و الحُرْمَة و الحُرُمَة**

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whdtsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جمع حُرَم و حُرُمات و حُرْمات: حصہ۔

۳۔ المُحْرِم: صلح جو، صلح پسند، صلح کرنے والا۔ مُحَرَّم: ہم کہتے ہیں: جلدٌ مُحرَّمٌ: بے رنگا چمڑا۔ سوطٌ مُحَرَّم: نرم نہ کیا ہوا کوڑا۔ اِعْرَابِیٌّ مُحرَّم: اجڈ، اکھڑ، دیہاتی۔ المَحْرَمَة: جیبی رومال۔

۴۔ حَرْمَدَ فی الأمر: میں اصرار کرنا۔ الحِرْمِد و الحَرْمَد: رنگ و بو بدلا ہوا۔ سیاہ کیچڑ۔

۵۔ حَرْمَزَ ہ: پر لعنت کرنا۔

۶۔ الحَرْمَل (ن): ایک قسم کی بوٹی جو دھونی دینے کے کام آتی ہے۔ اسہال روکتی، خون صاف کرتی اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔

حَرُمَ ـُ و حَرِمَ ـَ حَرَمًا الخ علی: پر حرام ہونا، کیلئے ناجائز ہونا، پر ممنوع ہونا۔ حَرَمَ ـِ حِرْمًا و حِرمانًا ہ ہ یا ہ من: کو سے محروم کرنا، کو سے بیدخل کرنا۔ ــــ ہ ہ/من ہ/ ہ من: سے کچھ دور کرنا، نکلوانا، روکنا، کو کچھ نہ دینا، سے کچھ لینے سے انکار کرنا۔ ــــ ہ ہ/ ہ من: کو سے خارج کرنا، نکال دینا، کو سے روکنا، باز رکھنا، منع کرنا۔ ــــ ہ: کو ذات (چرچ وغیرہ سے) باہر کرنا، کا حقہ پانی بند کرنا۔ حَرَّم ہ: مقدس، حرام، واجب التعظیم، محترم، قابل عزت یا ممنوعہ قرار دینا، کو غیر قانونی، ناروا، ناجائز، غیر مباح ٹھہرانا۔ ــــ ہ علی: کو سے منع کرنا، پر کی قدغن لگانا، پر کی ممانعت کرنا، کے لئے کوئی چیز ممنوع قرار دینا، حرام ٹھہرانا۔ ــــ ہ من: کو سے محفوظ بنانا، کو سے بے خوف کرنا۔ حَرَّمَهُ علی نفسه: سے باز رہنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا۔ اَحْرَمَ ہ: کو چرچ بدر کرنا، احرام باندھنا۔ تَحَرَّمَ: حرام ہونا، ممنوع ہونا، مقدس ہونا واجب التعظیم ہونا۔ اِحْتَرَمَ ہ/ ہ: کا احترام کرنا، کی عزت کرنا، توقیر کرنا۔ اِحْتَرَمَ نَفْسَهُ: خوددار ہونا، غیرت مند ہونا۔ اِسْتَحْرَمَ ہ: کو مقدس، پاکیزہ، واجب التعظیم سمجھنا یا کو ناجائز، ناروا، غیر قانونی یا حرام سمجھنا۔ حِرْم: مسیحی دین کے حقوق سے اخراج، برادری یا ذات سے اخراج۔ حَرَم جمع اَحْرَام: ممنوع، حرام، مقدس، پاک، متبرک، واجب التعظیم، مقدس چیز، مقدس مال و دولت، بیوی، حرم، خلوت کدہ، مقدس مقام، عبادت خانہ، معبد، درگاہ، جائے امن، مقدس احاطہ۔ الحَرَمان: مکہ و مدینہ۔ ثَالِثُ الحرمين: تیسرا حرم: یروشلم (بیت المقدس)، قدس شریف۔ حُرْمَة جمع حُرُمات و حُرَمات: پاکی، تقدس، واجب الاحترام ہونا، مقدس ہونا، واجب التعظیم ہونا، محترم ہونا، احترام، تعظیم، تکریم، عزت، قدر، لحاظ، پاس یا جو پاک، مقدس، واجب التعظیم یا حرام ہو۔ (جمع حُرَم) عورت، خاتون، بیوی۔ حَرَام جمع حُرُم: حرام، ممنوع، غیر قانونی، ممنوع یا حرام چیز، گناہ، جرم، حرام، قابل تعظیم، مقدس، متبرک، ملعون، لعنتی، مردود، راندہ درگاہ، بدبخت منحوس۔ ابن حرام: حرامی، ولدالزنا، ناجائز اولاد۔ الاراضی الحَرَام: دو فوجوں کے درمیان خالی علاقہ، بچولی زمین۔ حرامٌ علیك: تمہیں (ایسا) نہیں کرنا چاہیے۔ بِالحَرَام: ناجائز طور پر، غیر قانونی طور پر، خلاف قانون طور پر۔ حِرام جمع حِرامات و اَحْرِمَة: اونی کمبل۔ حَرِیم جمع حُرُم: مقدس اور قابل تعظیم جگہ، عبادت گاہ، معبد، درگاہ، جائے امن، حرم، خلوت کدہ، مقدس مقام، عبادت خانہ، مقدس احاطہ، کسی کنبہ کی خواتین ارکان، عورتیں، بیوی۔ حَرِیمِیّ: عورتوں کا، عورتوں کے لئے۔ حُرُوم جمع حُرُومات: مسیحی دین کے حقوق سے اخراج، برادری یا ذات سے اخراج۔ حِرْمَان: محرومی، ــــ (من: کے ساتھ) سے: سے بیدخلی، اخراج، محرومی، روک، مسیحی دین کے حقوق سے اخراج، برادری یا ذات سے اخراج، ضروریات زندگی سے محرومی۔ حِرْمَانُ الإِرْث: ترکہ سے اخراج، محروم الارث کرنا۔ مَحْرَم جمع مَحَارِم: ممنوع، قابل تعظیم، حرام، پاکیزہ، مقدس یا متبرک چیز، جو شادی کے قابل نہ ہو (شادی میں مانع خونی رشتہ کے درجہ میں ہونے کی وجہ سے)۔ مَحْرَمَة جمع مَحَارِم: دستی رومال۔ اِحرام: مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر حج کرنے والے کے لئے ایک مخصوص لباس پہننے، کنگھی نہ کرنے، حجامت نہ کرنے اور جنسی پرہیز کی حالت، حج کرنے والے کا لباس۔ احترام جمع احترامات: قدر، تعظیم، لحاظ، پاس، ادب، احترام، عزت، تعظیم، تکریم، استحقاق کا اعزاز جمع احترامات: تسلیمات، آداب، سلام، تحسینات۔ مُحْرِم: احرام باندھنے والا۔ مُحْتَرَم: عزت کیا گیا، توقیر کیا گیا، احترام کیا گیا، محترم، عزیزم (خطوط میں)، محترم، مقدس، بزرگ، مشہور، ممتاز، غیر معمولی، قابل ذکر۔ حَرَامِی جمع حَرَامِیَة: چور، ڈاکو، رہزن۔

حَرْمَل: افریقی اسپند، کالا دانہ، سداب۔

حَرْمَلَة جمع حَرَامِل: کندھوں پر اوڑھا جانے والا شال۔ (درویشوں کی پوشاک)۔

حرن: حَرَنَ و حَرُنَ ... حُرُونًا و حِرَانًا: البغل: ... بچر کا رجانا ... اکڑ جانا اور ... رک جانا، صفت حَرُون جمع حُرُن (مذکر و مؤنث)۔ ــــ بالمکان: کسی جگہ سے نہ ہٹنا۔ ــــ العسلُ فی الخَلِیَّة: شہد کا چھتہ میں ایسا چپکنا کہ اسکا نکالنا دشوار ہو۔ حَرَنَ فی البیع: برابر قیمت پر رہنا، نہ کم نہ زیادہ کرنا۔ ــــ القطنَ: روئی دھننا۔ المِحْرَن: روئی دھننے کی کمانی۔

حَرَنَ و حَرُنَ ـُ حِرانًا و حُرانًا: ضدی ہونا، ہٹ کا پکا ہونا، ہٹ دھرم ہونا، ہٹیلا ہونا، منہ زور ہونا، سرکش ہونا، نارضامند ہونا، غیر آمادہ ہونا، بیدل ہونا، مزاحم ہونا۔ حَرُون جمع حُرُن: ضدی، ہٹ کا پکا، ہٹ دھرم، ہٹیلا، منہ زور، سرکش، نارضامند، غیر آمادہ، بیدل، مزاحم۔

حَارُون: کسیرا، ٹھٹھیرا، پیتل کا کام کرنے والا۔

حرا: الحَرَا جمع اَحْرَاء: گھر کا صحن (کہا جاتا ہے نزلتُ بِحَرَاهُ: میں اس کے صحن میں اترا) آواز، گرہ، ہرن کی پناہ گاہ، لائق، کہا جاتا ہے: بِالحَرَا أن يكون ذَاكَ: وہ اس لائق یا اہل ہے کہ وہ ہو۔ الحَرْوَة: غصہ یا درد کے سبب حلق، یا سینہ یا سر میں سوزش، رائی وغیرہ کے مزے کی تیزی کے ساتھ بدبو۔ الحَرَاوة: رائی وغیرہ کے مزے کی تیزی۔

☆ حَرْوَة: جلن، طیش، تاؤ، غصہ، جوش، غیظ، غضب، قہر، تیزی، تندی، چڑچڑاپن، درشتی، ذائقہ کی تیزی، حدت یا جلن، تیز، چبھتا ہوا، ناگوار بو۔

حری: حَرَی ـِ حَرْيًا الشیءُ: گھٹنا، کم ہونا۔ أَحْرَی الشیءَ: کو گھٹانا، کم کرنا۔ الحارِیَة: بڑی عمر کا چھوٹا سانپ جو بہت زہریلا ہوتا ہے۔

۲۔ أَحْرِ بِه: وہ اس کے کس قدر لائق ہے۔ احْرِ: فعل امر ہے اور مراد اس سے تعجب ہے۔ بہ: باء حرف جر زائد جب کہ ہاء محل رفع میں ہے اور أَحْرِ کا فاعل ہے۔ تَحَرَّی: استعمال میں زیادہ مناسب و لائق کو طلب کرنا۔ دو چیزوں میں سے زیادہ بہتر کو طلب کرنا۔ ــــ الأمرَ: کا ارادہ کرنا اور اس کو ترجیح دینا۔ الحَرِی جمع حَرِیُّون و أَحْرِیاء مونث حَرِیَّة جمع حَرِیَّات و حَرَایَا و الحَرِیُّ جمع أَحْرَاء و الحَرَی: (یہ تثنیہ اور جمع کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا)، لائق، مناسب، قابل۔ کہا جاتا ہے: إنّه لَحَرِیٌّ او حَرٍ او حَرًی بکذا و ان یفعل کذا: وہ اس چیز کے لائق ہے یا فلاں کام کرنے کا اہل ہے۔ الأَحْرَی: زیادہ لائق، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر۔ المَحْرَی و المَحْرَاة: لائق، سزاوار۔ کہا جاتا ہے: هذا الأمر مَحْرًی او

imarfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

محراة لذلك او بذلك: یہ کام اس کے لائق ہے۔

۳۔ تَحَرَّی بالمکان: کسی جگہ میں ٹھہرنا۔

۴۔ تَحَرَّی عنه: کو تلاش کرنا، کے بارے میں تحقیقات کرنا۔ رِجالُ التَحَرّی: خفیہ پولیس (والے)۔

○ تَحَرَّی ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کے حصول کے پیچھے لگے رہنا، کے لئے جدوجہد کرنا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، کی جانچ پڑتال کرنا، کی تفتیش کرنا۔ ـــــ ہ/من: کی تفتیش کرنا، کے بارے میں حقائق معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ کے بارے میں تحقیقات کرنا۔ ـــ ہ: کا پکا ارادہ کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی بہبود یا برتری کے لئے کوشاں ہونا، کی نگہداشت کرنا۔ ـــــ ہ/فی: پر توجہ کرنا، کی دیکھ بھال یا نگرانی کرنا۔ ـــ ان: دیکھنا کہیں .... خیال رکھنا مبادا، اپنی تسلی کر لینا کہ، کا پورا بندوبست کر لینا۔ بالحری: مشکل سے، صرف، محض، بمشکل، فقط۔ حَرِیّ جمع اَحْرِیاء ب: کیلئے کافی، مناسب، موزوں، کے لائق، کے قابل، کے شایاں۔ حَرِیٌّ بِالذکر: لائق ذکر، قابل توجہ، قابل لحاظ۔ حری بالتصدیق: قابل یقین، قابل اعتبار۔ او بالحری: یا صحیح، ٹھیک ٹھیک، بلکہ بہتر تو یہ ہے، بلکہ۔ أَحْرَی: زیادہ کافی، موزوں، مناسب یا شایان۔ او بالاحری: بلکہ، زیادہ صحیح طور پر، سچ تو یہ ہے کہ، زیادہ صراحت سے، زیادہ وضاحت سے بعینہ۔ تَحَرٍّ جمع تَحَرِّیات: تفتیش، تحقیقات، چھان بین۔ شُرْطَةُ التحری یا مصلحة التحری: خفیہ پولیس (secret police)۔

حزّ: ا۔ حَزَّ ۓ حَزًّا و اِحْتَزَّ ہ: کو کاٹنا۔ ـــ العُودَ: لکڑی میں شگاف ڈالنا۔ تَحَزَّزَ: لکڑی میں شگاف پڑجانا۔ الحَزّ واحد حَزَّة: لکڑی وغیرہ میں شگاف (ڈالنا)۔ الحِزَّة: خربوزہ وغیرہ کی پھانک۔ المَحَزّ: کاٹنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: قطع فاصاب المحزّ: اس نے کاٹا اور درست جگہوں پر کاٹا۔ المِحَزّ جمع مَحَازّ: شگاف ڈالنے کا آلہ۔

۲۔ حَزَّ ۓ حَزًّا الشیءُ فی صدرہ: کسی چیز کا کسی کو متاثر کرنا، برا اچھا اثر ڈالنا۔ حَزَّزَ اسنانَه: کے دانتوں کے کناروں کو تیز کرنا۔ الحَزّة: دل کا درد، دردمند حالت۔ الحَزَازَة جمع حَزَازَات: غصہ وغیرہ سے دل میں درد۔ الحَزَّاز و الحُزَّاز: دل یا سینہ میں چبھ کر درد کرنے والی چیز۔ حَوَازُّ (واحد حازّة) القلب: دل کو دکھ پہنچانے والے امور۔

۳۔ حَزَّ و اَحَزَّ علی کَرَمِ فلان: سے سخاوت میں بڑھ جانا۔

۴۔ حَازَّ مُحَازَّةً و حِزَازًا ہ: کی خوب جانچ پڑتال کرنا، اچھی طرح سے تلاش و جستجو کرنا۔

۵۔ الحَزّ (مص): وقت، غیر مہذب کلام کرنے والا۔ الحَزَّة: گھڑی (وقت)۔ کہا جاتا ہے: اَیَّ حَزَّةٍ اتیتنی قضیتُ حاجتكَ: جس وقت (یا جس گھڑی) تم میرے پاس آئے میں نے تمہاری حاجت پوری کی۔ المِحَزّ جمع مَحَازّ: غیر مہذب کلام والا۔ الحَزِیز جمع حُزَز و حُزَّان و حِزّان و أحِزّة: سخت عمل کرنے والا آدمی، تیز ہانکنے والا آدمی۔ الحَزَاز: سر کی بھوسی (طب): داد (عوامی زبان میں) جب کہ فصیح زبان میں القُوبَاء ہے۔ (ن) چٹانوں، دیواروں، درختوں کی چھالوں اور مٹی پر اگنے والی روئیدگی، جو موسمی تغیرات اور پالے سے متاثر نہیں ہوتی، سفید یا سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ الحَزَازَة جمع حَزَازات: کلام میں کج روی۔ بمعنی الحَزاز۔ ثلاثیةُ الحَزّات (ن): پیلے سرخ خاردار پھولوں کا خوبصورت پودہ۔ الحَزَازِیّ: سخت عمل کرنے والا، تیز ہانکنے والا۔

○ حَزَّ ۓ حَزًّا فی: میں دندانے بنانا، نشان لگانا، کو کاٹنا، تراشنا، کھودنا، کندہ کرنا، میں گہرا شگاف بنانا۔ حَزَّزَ و اَحْتَزَّ: بمعنی حَزَّ۔ حَزٌّ جمع حُزُوز: کاٹ، تراش، درز، شگاف، دندانہ، موکھا، نشان، کھانچہ، صحیح وقت، عین وقت۔ حَزَّة: بمعنی: حَزٌّ: نیز وقت تکلیف دہ صورت، ناگوار یا خطرناک موقع، حالت، کیفیت۔ حَزَاز: سر کی بھوسی یا خشکی، خارش، داد کی بیماری، جلدی مرض، کھجلی۔ حَزَازَة: نفرت، بغض، عناد، کینہ، عداوت۔ مَحَزّ: کھانچہ، دندانہ، موکھا، شگاف، لکڑی وغیرہ پر لگایا جانے والا نشان۔ اَصَابَ المَحَزَّ: صحیح حل حاصل کرنا، ٹھیک بات کرنا، سچے کی کہنا، (کسی کام میں) کامیاب ہونا، مطلوبہ اثر کرنا، تکلیف دہ اثر کرنا۔

حزا: حَزَأَ ۓ حَزْءًا السرابُ الشخصَ: کو سراب کا نمایاں کرنا۔ ـــ الابلَ: اونٹوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اِحْزَوْزَأَتِ الابلُ: اونٹوں کا اکٹھا ہونا۔ ـــ الطائِرُ: پرندے کا پر سمیٹ کر انڈوں سے الگ ہونا۔

حزب: ا۔ حَزَبَ ۓ حَزْبًا ہ الویلُ والغمُّ: کو غم و مصیبت کا پہنچنا یا اس پر سخت ہونا۔ الحَازِب جمع حَوَازِب و الحَزِیب جمع حُزْب و حُزُب: سخت امر۔ آپ کہتے ہیں: نزلت به حوازِبُ الخُطُوب: اس پر سخت مصیبتیں گریں (آئیں)۔ هذا امرٌ حَزِبٌ [illegible]

الحَزْب کا اسم۔

۲۔ حَزَبَ ۓ حَزْبًا القرآنَ: قرآن کے حصے مقرر کرنا۔ حَزَّبَ القومَ: لوگوں کے گروہ گروہ بنا کر جمع کرنا۔ حَازَبَ ہ: کی پارٹی میں داخل ہونا، کی مدد کرنا، کو قوت پہنچانا۔ تَحَزَّبَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، طبقے بننا، گروہ بننا۔ الحِزب جمع اَحْزَاب: گروہ، پارٹی، جتھا، ایسے لوگ جن کے دل اور اعمال ایک جیسے ہوں لیکن آپس میں نہ ملے ہوں، کسی شخص کی فوج اور ہم خیال ساتھی۔ قرآن مجید وغیرہ کا ایک حصہ۔

۳۔ الحِزْب جمع اَحْزَاب: ہتھیار، حصہ۔ الحَزَابی و الحَزَابِیّة من الرجال: گٹھیلے بدن والا، پستہ قد آدمی۔

۴۔ الحَیْزَبُون و الحَیْزَبُور: بڑھیا۔

○ حَزَبَ ۓ حَزْبًا ہ: پر پڑنا، واقع ہونا، نازل ہونا، گرنا۔ حزب الامرُ: معاملہ سنگین ہوگیا۔ حَزَّبَ ہ: لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ ـــ: پارٹی بنانا، تشکیل دینا۔ حَازَبَ ہ: کی حمایت کرنا، کا ساتھ دینا، کی طرفداری کرنا، جانب داری کرنا، کا حامی، حمایتی یا پیرو ہونا، سے وابستہ ہونا، کا طرف دار یا ہوا خواہ ہونا۔ تَحَزَّبَ: (لڑائی جھگڑے میں) کسی ایک فریق کا ساتھ دینا، طرف داری کرنا، جانبداری کرنا، پارٹی بنانا، کوئی مشترک مقصد حاصل کرنے کے لئے مل کر کام کرنا، کسی مشترکہ غرض کے لئے متحد ہونا۔ حِزْب جمع اَحْزَاب: گروہ، جتھا، (سیاسی) پارٹی، ٹولی، قرآن مجید کا ۶۰ واں حصہ۔ هو من اَحْزَابِه: وہ اس کی ٹولی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اسی قسم کا ہے۔ حِزْبِیّ: پارٹی کا، پارٹی کے متعلق، فسادی، مفسد، فتنہ انگیز، ہنگامہ پرداز سرکش، متمرد۔ حِزْبِیَّة: پارٹی کی سرگرمیاں، مساعی، کورانہ حمایت، بے جا حمایت، طرفداری، جانب داری، پارٹی بازی، مخالفت۔ حَیْزَبُون: بڑھیا، چڑیل، ڈائن۔ تَحَزُّب: جتھا بندی، پارٹی بازی، گروہ بندی۔ حازِب۔ حَزَبَهٗ حازِبٌ: وہ ایک افسوسناک حادثہ سے دوچار ہوا۔ مُتَحَزِّب: طرف دار، حمایتی، حامی، جانب دارانہ، جانب دار، متعصب، متعصبانہ، پکا حامی، کٹر۔

حزر: ا۔ حَزَرَ ۓ حَزْرًا و مَحْزِرَةً الشیءَ: کا اندازہ کرنا، تخمینہ لگانا۔ کہا جاتا ہے: حَزَرَ قدومَه یومَ کذا: اس نے اس کے آنے کا فلاں دن اندازہ کیا۔ الحُزُّورَة: چیستان، معمہ، پہیلی، یہ عامی زبان کا لفظ ہے فصیح عربی میں الأُحْجِیَّة ہے۔

۲۔ حَزِرَ ۓ و حَزُرَ ۓ حَزْرًا و حُزُورًا النبیذُ او

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الـلـبـنُ: نبیذ یا دودھ کا ترش ہونا۔ صفت: حَـازِرٌ۔ الحَازِرَة: حازر کا مؤنث: ترش۔

۳- الـحَـزْوَر و الحَزَوَّر جمع حَـزَاوِرَة: طاقت ور لڑکا۔ الـحَزْرَة جمع حَـزَرَات و الـحَـزِيْرَة من كلّ شيءٍ: ہر چیز کا عمدہ حصہ۔ الحازِرَة: مضبوط اور عمدہ آدمی۔ المُحَزْوِر: غضبناک۔

۴- حَزِيرَان: شمسی سال کا چھٹا مہینہ: ماہ جون۔

☆ حَزَرَ ـ حَـزْرًا و مَحْـزَرَةً ہ: کا اندازہ کرنا، (محصول وغیرہ)، تشخیص کرنا (قیمت) تشخیص کرنا، آنکنا، (قیمت کا) اندازہ کرنا، کا ابتدائی تخمینہ بنانا، کا قیاس لگانا، کو انکل سے کہنا۔ حَـزْر: اندازہ، تشخیص (محصول وغیرہ اور قیمت کی) انکل، قیاس، قیاس آرائی۔ مَحْزَرَة: بمعنی حَزْر۔

حزف: حَزَفَ القومُ للقوم: قوم کا دوسری قوم سے لڑائی کے لئے تیار ہونا۔ ـ المتاعَ: سامان کس کر باندھنا۔ ـ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

حزق: ۱- حَزَقَ - حَـزْقًا الوتَر او الرباطَ: تانت یا رسی کو کس کر باندھنا، باندھنا۔ ـ الشيءَ: کو دبا کر نچوڑنا۔ ـ الحمارُ: گدھے کا گوز کرنا۔ ـ ہ: کو روکنا، منع کرنا۔ أَحْزَقَ - تَحَزَّقَ: سکڑنا، اکٹھا ہونا۔ الحِزْق و الحَازِقَةُ و الحَزَاقَة و الحَزِيقَة (حزیقہ کی جمع حَزَائِق و حَزِيق و حُزُق ہے): آدمیوں وغیرہ کی جماعت۔ الحِزْقَة: انسانوں وغیرہ کی جماعت، ہر شے کا ٹکڑا۔ الـحَـزْق و الـحُزُق و الـحُـزُقَّة و الحَزُقَّة و الأُحْزُقَّة: پست قدم جو چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلے۔ ـ و المُتَحَزِّق: کنجوس، بد خلق۔ الحَازُوقَة (طب) ہچکی (عامی زبان میں) اس کے لئے فصیح لفظ فواق ہے۔ المَحْزُوق من ابريق ونحوه: تنگ منہ کا لوٹا، صراحی وغیرہ۔

○ حُزُقَّانِي: غصیلا، تند مزاج، تیز مزاج۔

○ حَزُوقَة و حَازُوقَة: ہچکی۔

حزك: حَزَكَ - حَزْكًا ہ: کو لپیٹنا، دبانا۔ ـ ہ بالحبل: کو رسی سے باندھنا، کا گٹھا بنانا۔ اِحْتَزَكَ بالثوب: کپڑے سے کمر کسنا۔

حزل: اِحْزَأَلَّ الشيءُ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ ـ القلبُ: دل کا ڈر کی وجہ سے سکڑنا۔ ـ الجبلُ: پہاڑ کا سراب سے اونچا ہونا۔ ـ البعيرُ في السير: اونٹ کا چلنے میں بلند ہونا۔ الحَوْزَل و الحَوْزَلَة: کوتاہ قد، ٹھگنا۔

حزم: ۱- حَزُمَ ـ حَزْمًا و حَزَامَةً: پکے ارادے والا اور مستقل مزاج ہونا۔ صفت: حازم جمع حَزَمَة و حُزَّم و أَحْزَام و حَزِيم جمع حُزَمَاء۔ حَزَمَ - حَزْمًا ہ: کو باندھنا۔ ـ الفرسَ: گھوڑے پر تنگ کسنا۔ حَزَّمَ ہ: کو باندھنا۔ أَحْزَمَ الفرسَ: گھوڑے کے لئے تنگ بنانا۔ تَحَزَّمَ و إِحْتَزَمَ: رسی وغیرہ سے کمر باندھنا، کسنا۔ کہا جاتا ہے: تَحَزَّمَ في الامر: اس نے معاملہ میں دانائی اور ہوشیاری سے کام لینا۔ الحِزَام جمع حُزُم و الحِزَامَة جمع حَزَائِم و المِحْزَم و المِحْزَمَة: جانور کا تنگ، زنانہ زیر جامہ، چولی، انگیا، سینہ بند۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَ حِزَامَ الطريق: اس نے بیچ راستہ کو پکڑا اور اسی پر چلا۔ الـحُـزْمَة: گٹھا (لکڑی وغیرہ کا)۔ الحَزِيم جمع حُزُم و اَحْزِمَة: تنگ کسنے کی جگہ، سینہ کا وسط، کہا جاتا ہے: شددت لهذا الامر حَزِيمي: میں اس کام کے لئے کمربستہ ہوا۔ الأَحْزَم: چوڑے سینے والا، الحَيْزُوم جمع حَيَازِم و حَيَازِيم: سینے کا وسط۔ شَدُّ الحَيَازِم: صبر سے کنایہ ہے۔ المَحْزِم من الدابَّة: جانور کی وہ جگہ جہاں تنگ کسا جاتا ہے۔

۲- حَزِمَ ـ حَزَمًا: سینہ میں کسی چیز کا پھنس جانا۔ الحَزَم: سینہ کی بستگی۔

۳- إِحْزَوْزَمَ إِحْزِيزَامًا الشيءُ: چیز کا اکٹھا ہونا۔ الأَحْزَام: پارٹیاں (احزاب سے وزن اور معنی میں پوری طرح مطابق)

۴- اِحْزَوْزَمَ احزِيزَامًا المكانُ: جگہ کا سخت و بلند ہونا، الحَزْم جمع حُزُوم: سخت اور اونچی زمین۔ الحَيْزُوم جمع حَيَازِم و حَيَازِيم: بلند زمین۔

۵- الحَزَم: خوراک کا مشکل سے ہضم ہونا۔ الأَحْزَم و الأَحْزَم: موٹے پیٹ اور کولھوؤں والا۔ الحُزُمَّة: ٹھگنا، کوتاہ قد۔

☆ حَزَمَ - حَزْمًا ہ: کو باندھنا، کا پلندا بنانا، کی گٹھری باندھنا، لپیٹنا، کو پیک کرنا، کو گانٹھ، پلندے یا گٹھری میں باندھنا، رکھنا، جانور، کو تنگ باندھنا۔ حَزَمَ امرَہ: معاملات کو مضبوطی سے ہاتھ میں لینا۔ حَزُمَ ـ حَزْمًا و حزامةً و حَزُومَةً: باعزم ہونا، مستقل مزاج ہونا، پکا ہونا، مضبوط دل والا ہونا، نڈر ہونا، بے خوف ہونا، دلیر ہونا، بہادر ہونا۔ حَزَّمَ ہ: کو پٹی یا پٹکا باندھنا۔ تَحَزَّمَ و إِحْتَزَمَ: کمربستہ ہونا، پوری طرح تیار ہونا، پٹی باندھنا۔ حَزْم: گٹھری باندھنا، بنڈل بنانا، پوٹ باندھنا، اسباب باندھنا، جکڑنا، کسنا، تہہ کرنا، تہہ کر کے رکھنا، صندوق یا ڈبہ میں [illegible] مزاجی، ارادے کی پختگی، دلبری، پائداری، استقلال، ہمت، طاقت، عقلمندی، دانش مندی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، فرزانگی، عقل شعور، سمجھ، مصلحت بینی، ہوشیاری، دانائی، عاقبت اندیشی۔ حُزْمَة جمع حُزَم: لپٹی یا بندھی ہوئی چیز، گٹھری، گانٹھ، پلندا، بنڈل، ایندھن کا گٹھا، لکڑیوں کا گٹھا، لکڑیوں کے گٹھے جو جنگ میں مورچوں کو اونچا کرنے، کھائیوں کو بھرنے میں کام آتے ہیں۔ کرنوں کی شعاع، تابانی کی شعاع، (جڑی بوٹیوں وغیرہ کا) گچھا۔ پارسل، پیکج، مٹھا، گٹھا، پوٹلی۔ حِزَام جمع حِزَامات و أَحْزِمَة و حُزُم: پٹی، تنگ، پٹکا، کمربند، کرپٹی، تلوار کی پٹی۔ حزام الامن: حفاظتی پٹی۔ اَحْزَم: زیادہ باعزم، زیادہ معاملہ فہم، زیادہ مدبر۔ حَازِم جمع حَزَمَة و حَزِيم جمع حُزَمَاء: باعزم، معاملہ فہم، پھرتیلا، چست و چالاک، سرگرم، زور دار، ہوشیار، محتاط، موقع محل دیکھ کر بات کہنے والا، چوکس، عاقل، دانا، زیرک، مصلحت اندیش۔

حزن: ۱- حَزَنَ ـ حَزْنًا ہ: کو غمگین کرنا، آزردہ خاطر کرنا۔ حَزِنَ ـ حَزَنًا له و عليه: کی وجہ سے / کے لئے یا پر غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا صفت: حَزِين جمع حُزَنَاء و حِزَان و حَزَانَى و حَزِن و حَزُن و مَحْزُون و مُحْزَن و مِحْزَان و حَزْنَان۔ حَزَّنَ الرجلَ: کو غمگین کرنا، آزردہ خاطر کرنا۔ ـ القاريءُ: قاری کا باریک آواز سے پڑھنا۔ أَحْزَنَ الرجلَ: کو غمگین کرنا۔ تَحَزَّنَ عليه و لأمره: پر غمگین ہونا، دردمند ہونا۔ ـ و تَحَازَنَ و إِحْتَزَنَ: آزردہ خاطر ہونا، رنجیدہ ہونا۔ الحُزْن و الحَزَن جمع اَحْزَان: غم، رنج۔ المَحْزَن: مصائب، سختیاں۔ المَحْزَنَة: بال بچے جن کے اہتمام میں انسان فکرمند رہتا ہے۔ مالكُ الحزين (جسے البلشون بھی کہا جاتا ہے)۔ (ح): بگلا، بوتی مار۔

۲- حَزُنَ ـ حُزُونَةً المكانُ: جگہ کا سخت ہونا۔ أَحْزَنَ: سخت زمین پر چلنا، سخت زمین ہونا۔ الحَزْن جمع حُزُن و حُزُون: سخت اور اونچی زمین۔ الحُزْنَة جمع حُزَن: سخت پہاڑ۔ الحَزْنَبَل: سخت پہاڑ۔ الحَزْنَة من الأرض: سخت زمین۔ الحُزُونَة: زمین کی سختی۔

۳- الحَزَنْبَل (ن): کڑوے ذائقہ کا پودا۔

☆ حَزِنَ ـ حُزْنًا و حَزَنًا على: پر رنجیدہ ہونا، ملول ہونا، غم کرنا، رونا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سوگ منانا، افسوس کرنا، کو رونا، کا ماتم کرنا۔ حُزْن جمع اَحْزَان:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

غم، رنج، افسوس، ملال، الم، سوگ، ماتم، دکھ، درد، تکلیف۔ حَزْن جمع حُزُون: ناہموار، سنگلاخ اور سخت زمین۔ حَزِن: غمگین، رنجیدہ، غم زدہ، غمناک، ماتم کناں، ملول، متاسف۔ حَزِین جمع حُزَناء و حِزَان و حَزَانَی: غمگین، رنجیدہ، ماتم کناں، متاسف، غم زدہ، غمناک۔ الجمعة الحزینة: (عیسائیت میں) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصلیب منانے والے ایسٹر (عید الفصح) سے قبل واقع ہونے والا جمعہ کا دن جسے انگریزی میں Good Friday کہا جاتا ہے۔ حَزُنَان: بہت غمگین، بہت رنجیدہ، بہت غمزدہ، بہت متاسف، بہت پریشان، ماتم کناں۔ حَزَائِنی (حَزَائِنِی): غمگین، ماتم کناں، غمناک، غم زدہ، اداس، افسردہ خاطر ملول، موت کے متعلق، ماتمی، تجہیز و تکفین کے متعلق، قماش حزائنی۔ (ماتمی لباس کے لئے مخصوص) کپڑا۔ تَحَزُّن: غم، ماتم کنندہ کاردیہ۔ مَحْزُون: غم زدہ، رنجیدہ، غمگین، دکھی۔ مُحْزِن: غمگین، رنجیدہ، تکلیف دہ، المناک، درد انگیز، اداس کن، اُزردہ کن، ملول کن، المیہ سے متعلق، المناک، حزنیہ، پرسوز، دلگداز۔ مُحْزِنات: دردناک یا تکلیف دہ باتیں، واقعات امور یا چیزیں۔ قِصَّةٌ تَمْثِیلِیَّةٌ مُحْزِنَة یا رِوَایَةٌ مُحْزِنَة: ٹریجڈی۔ المیہ، المناک واقعہ، المیہ نظم یا نثر، المیہ ناٹک، مصیبت، آفت۔

حَزَا ـُ حَزْوًا الشیءَ: کا اندازہ کرنا، تخمینہ لگانا۔ ـــ الطیرَ: شگون لینے کے لئے پرندہ کو اڑانا۔ حَزَیَ ـِ حَزْیًا و تَحْزِّی: پیشین گوئی کرنا۔ ـــ الشیءَ: کا اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا۔ أَحْزَی إِحْزاءً بالشیءِ: کو جاننا۔ الحَازِی (فا): قیافہ شناس۔ ہم کہتے ہیں: عَلَی الحازِی هبطتَ: تو واقف کار اور باخبر کے پاس پہنچا۔

۲۔ حَزَا ـُ حَزْوًا و حَزْیًا السرابُ الشیءَ: سراب کا چیز کو فضاء میں نمایاں کرنا، ظاہر کرنا۔ أَحْزَی إِحْزَاءً الشیءُ: بلند و نمایاں ہونا۔

۳۔ الحَزَی و الحَزَاء: واحد حَزَاةَ و حَزَاءَة (ن): ایک نبات کا نام۔

حزی: دیکھو حزا (اوپر)۔

حسّ. ۱۔ حَسَّ ـُ حَسًّا ہ: کو قتل کرنا، جڑ سے اکھیڑنا، کی بیخ کنی کرنا۔ اِحْتَسَّ الشیء: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اِنْحَسَّتْ اسنانُه: کے دانتوں کا اکھڑ جانا، گر جانا، ٹوٹ جانا۔ الحَسِیس: مقتول۔

۲۔ حَسَّ ـُ حَسًّا الدابّةَ: جانور کو کھریرا کرنا۔ المِحَسَّة: کھریرا۔

۳۔ حَسَّ ـُ حَسًّا النارَ: پختگی کے لئے، کسی چیز پر آگ ڈالنا۔ ـ اللحمَ: گوشت کو انگاروں پر رکھنا۔

۴۔ حَسَّ ـِ حَسًّا و حِسًّا لفلان: پر دل دکھنا، کے لئے نرم دل ہونا۔ ـ ہُ: کو معلوم کرانا۔

۵۔ حَسَّ ـِ حَسًّا الشیءَ و بالشیء: کو محسوس کرنا، معلوم کرنا۔ ـــ حَسًّا و حِسًّا بالخبر: خبر کا یقین کرنا۔ اَحَسَّ الشیءَ و بالشیء: کو جاننا، محسوس کرنا، کا ادراک کرنا۔ کہا جاتا ہے: حَسَّ و اَحَسَّ منه خبراً: اس نے اس سے خبر معلوم کی۔ تَحَسَّسَ: سننا، دیکھنا۔ ـ الخبرَ: خبر معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ ـ الشیءَ: کا حواس سے پتہ لگانا۔ ـ منه: کی خبر دریافت کرنا۔ اِحْتَسَّ الشیءَ: کو چھونا۔ الحِسّ (مص): حرکت، ہلکی آواز (کہا جاتا ہے: ما سمعت لَه حِسًّا) میں نے اس کی آہٹ یا ہلکی آواز نہیں سنی)۔ ادراک، آہٹ، بچہ کی ولادت کے بعد کا درد جو زچہ کو ہوتا ہے۔ حِسُّ الحُمَّی: تپ کے شروع کا احساس۔ الحِسِّیّ: حس ظاہری سے ادراک کی ہوئی شئے، عقلی کی ضد۔ المذهب الحِسّی او الحِسِّیَّة: یہ نظریہ کے ہمارے تصورات کا ماخذ ہمارے خارجی حسیات ہیں۔ الحَسَّة والحِسَّة: حالت۔ کہا جاتا ہے: هو فی حَسّةِ سوءٍ: وہ ابتر حال میں ہے۔ حِسَاسُ الحُمَّی: بخار کے شروع ہونے کا احساس۔ الحَسِیس: ہلکی آواز، حرکت آہٹ۔ الحَاسَّة جمع حَوَاسّ: الحاس کا مونث، دریافت کرنے کی نفسیاتی قوت۔ الحواسَ الخمس: ادراک کی پانچ قوتیں، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ حَسَّاس: کلچ (clutch)۔ حَسَاسَاتُ الحیا: ناپسندیدہ یا شرمندگی کی باعث چیزوں کی وجہ سے انقباضی کیفیت کا احساس و شعور۔

۶۔ حَسَّ ـُ حسًّا البردُ الزرعَ: سردی (پالے) کا کھیتی کو مار جانا، جلا دینا۔ کہا جاتا ہے: البرد مَحَسَّةٌ للنبات: سردی (پالا) پودوں کو جلا ڈالنے والی ہے۔ حَوَاسّ الارض الخمس: زمین کی پانچ آفتیں: سردی، اولے، آندھی، ٹڈی، مویشی۔ کہا جاتا ہے: مرّت بالقوم حواسّ: قوم پر سخت سال گزرے۔ الحَسُوس: سخت قحط کا سال۔ الحُسَاس: نحوست، بدخلقی۔ المَحْسُوس: منحوس، نامبارک۔ ارضٌ محسوسة: ٹڈی یا اولوں سے تباہ شدہ زمین۔

۷۔ الحَسّ: جلد۔ الحُسَاس: بدخلقی۔ واحد [illegible]

حُسَاسة: پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے (ح): ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جو کھائی جاتی ہے۔

۸۔ حَسْحَسَ له: کے لئے دردمند ہونا، درد محسوس کرنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو انگاروں پر رکھ کر الٹ پلٹ کرنا۔ تَحَسْحَسَ للقیام: اٹھنے کے لئے حرکت کرنا۔ ـ ت اوبارُ الابل: اونٹوں کے بالوں کا بکھرنا اور پھیلنا۔

○ حَسَّ ـُ حَسًّا ہ: جانور کو کھریرا کرنا، ملنا، مالش کرنا، (کسی چیز وغیرہ) کو محسوس کرنا، معلوم کرنا۔ حَسَّ ـَ حَسًّا ل: کے لئے افسوس، ہمدردی یا ترس محسوس کرنا، سے ہمدردی کرنا، کے درد میں شریک ہونا، سے اظہار ہمدردی کرنا۔ حَسَّسَ: محسوس کرنا، ٹٹولنا، کی ٹوہ لگانا، کو ٹٹول کر معلوم کرنا۔ اَحَسَّ ہ/ب: کو حواس سے معلوم کرنا، کا ادراک کرنا، معلوم کرنا، کا تجربہ کرنا، آزمانا۔ ـ ہ/ب: کو محسوس کرنا، دیکھنا، کا دھیان کرنا۔ ـــ ہ: (آواز، شور وغیرہ) سننا۔ ـ ہ: کی طرف توجہ کرنا۔ تَحَسَّسَ ہ: کو ٹوہنا، ٹٹولنا، کے لئے ٹامک ٹوئیاں مارنا، کو چھونا، انگلی سے چھونا، کو ہاتھ لگانا، پر ہاتھ پھیرنا، ـــ: ادھر ادھر ٹٹولنا، ٹامک ٹوئیاں مارنا، تلاش کرنا (ہاتھوں، پاؤں چھڑی وغیرہ سے)۔ ـــ من: سے معلومات مانگنا، کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا۔ ـــ ہ/ب: کا تجربہ کرنا، کو آزمانا، محسوس کرنا، حواس سے معلوم کرنا، کا ادراک کرنا۔ ـــ ب: کو محسوس کرنا، سے سخت متاثر ہونا۔ حَسّ: احساس، ادراک، خیال، جذبہ، جذباتیت۔ حِسّ: حسیاتی ادراک، احساس، جذبہ، خیال، حس، حاسہ، آواز، شور۔ حِسّی: حسیاتی، حواسی، حسی، محسوس، قابل ادراک، واضح، صریح۔ حِسِّیّات: احساسات۔ حسیس: کمزور آواز۔ حَسَّاس: حساس، سریع التاثر، معقول، ہوشمند، اثر پذیر، شہوانی (مسرت)، حَسَّاسة: حسی عضو۔ حَسَّاسِیّ: الثاثر کرنے والا، ناموافق، الرجی والا۔ اَمراض حَسَّاسِیّة: الرجی والی بیماریاں، الٹے اثر والی بیماریاں۔ حَسَّاسِیة: اثر پذیری، احساس، حسی ادراک کا حاسہ، نفس پرستی۔ مرض الحسّاسِیّة: الرجی (allergy)۔ مِحَسّة: کھریرا۔ اِحْسَاس جمع احساسات و احاسیس: احساس۔ ـ ب: کا احساس، ادراک، اثر پذیری، جمع احساسات: احساسات، جذبات۔ احساس بالنور: روشنی سے اثر پذیری۔ شدیدُ الإحساس: بہت حساس۔ إِحْسَاس مُشْتَرك: احساس ہم آہنگی، اتفاق، اتحاد، کامل اتفاق۔ قِلّةُ الإحساس: بے حسی، بے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ذوقی، افسردگی، کند ذہنی۔ الطائفة الاحساسية: مصوری یا بیان میں مجموعی اثر پر زور دینے والے نہ کہ تفصیلات پر۔ اثریت والے فن کار جو اثریت کے انداز میں مصوری کریں اور رنگ اور روشنی کے اثرات استعمال کریں۔ مَحْسُوس: محسوس، قابل ادراک، نمایاں، واضح، صریح، کافی یا نمایاں (نقصان)۔ المحسوس: حواس خمسہ کے ذریعہ قابل ادراک ظہور، شہادت۔ المحسوسات: حواس خمسہ کے ذریعہ قابل ادراک اشیاء۔

حسب: ا۔ حَسَبَ ـ حَسْبًا و حِسَابًا و حِسبانًا و حُسْبانًا و حِسْبَةً و حِسَابَةً ہ: کو گننا، شمار کرنا۔ حَاسَبَ مُحَاسَبَةً و حِسَابًا ہ: کا حساب لینا، محاسبہ کرنا۔ تَحَاسَبَا: ایک دوسرے کے حساب کی جانچ کرنا، ایک دوسرے کا محاسبہ کرنا، آپس کا حساب صاف کرنا۔ اِحْتَسَبَ الامرَ: کو شمار کرنا، گمان کرنا۔ ـ عند اللّٰہ خیراً: خیر آگے بھیجنا، کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید لگانا۔ الحَسَبُ: تعداد، اندازہ، (کہا جاتا ہے: هذا بحسب ذالك: یہ اس کے موافق ہے۔ اعمَلْ علی حسب ما امرتُكَ: میرے حکم کے مطابق عمل کرو۔ حسبما ذُكر: موافق اس کے جس کا ذکر ہوا) شمار کیا ہوا۔ الحِسَاب (مص): شمار۔ (کہا جاتا ہے: یَرْزُقُ اللّٰہ من يشاء بغير حِسابٍ: اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کسی تنگی یا کمی کے بغیر رزق پہنچاتا ہے)۔ لوگوں کی بڑی تعداد (کہا جاتا ہے: اتانی حسابٌ من الناس بمعنی جاء نی عدد منهم: میرے پاس لوگوں کی ایک بڑی تعداد آئی۔ حسابُ الجُمَّل: حروف ابجد کا حساب۔ یومُ الحساب: قیامت کا دن۔ الحاسِب جمع حَسَبَة (فا): حساب داں۔ الحِسَابِیّ: حساب داں۔ الحِسْبَة جمع حِسَب: اجر و ثواب۔ الحَسِیب: جانچ کنندہ۔ کہا جاتا ہے: کفیٰ باللّٰہ حسیبًا: محاسبہ کے لئے اللہ کافی ہے۔ (اعراب: کفی فعل ماضی باللہ۔ باء حرف جر زائد۔ اللہ تعالیٰ کفی کا فاعل۔ حسیبًا: تمیز۔ الحُسْبَان: حساب۔ مُحْتَسِبُ البلد: اوزان وغیرہ کی جانچ پڑتال کرنے پر حاکم کی طرف سے مقرر شخص۔

۲۔ حَسِبَ ـ حِسْبانًا و مَحْسَبَةً و مَحْسِبَةً ہ: کو گمان کرنا، خیال کرنا۔ اِحْتَسَبَ الامرَ: کو گمان کرنا۔

۳۔ حَسُبَ ـ حَسَبًا و حَسَابَةً: شریف الاصل ہونا، فیاض ہونا صفت: حسیب جمع حُسَبَاء۔ الحَسَب جمع اَحْسَاب: خاندانی شرافت، آباء و اجداد کے محاسن و مفاخر۔ الحَسِیب: خاندانی شرافت رکھنے والا۔

۴۔ حَسَّبَ و اَحْسَبَ ہ: کو اس قدر کھلانا یا دینا کہ کھانے یا لینے والا کہے بس (حَسْبِی، کفانی) کہا جاتا ہے: اعطی فاحسبَ: اس نے بہت دیا حتی کہ اسے کہا گیا بس۔ تَحَسَّبَ: قناعت کرنا۔ اِحْتَسَبَ به: پر قناعت کرنا (کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یُحْتَسَبُ به: فلاں شخص نا قابل اعتبار ہے اور کسی شمار میں نہیں۔ فلانٌ استعطانی فاحتسبتُه: فلاں شخص نے مجھ سے بخشش چاہی تو میں نے اسے خوب دیا اور کافی دیا)۔ ـ عنه: سے رک جانا۔ الحَسْب: کافی ہونا، کفایت کرنا۔ کہا جاتا ہے: حسبُك درهمٌ: تمہیں ایک درہم کافی ہے (ابتداء میں آنے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ کاف مضاف الیہ ہے۔ کبھی اس پر باء کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: بحسبك درهم: تمہیں ایک درہم کافی ہے۔ کہا جاتا ہے: هذا رجلٌ حسبُك من رجل: حسب یہاں رجل کی صفت ہے): تمہارے لئے یہ آدمی اس آدمی سے کافی ہے۔ زیدٌ صدیقی فحسبی: زید میرا دوست ہے اور وہ مجھے کافی ہے۔ هذا زيدٌ حَسْبُكَ: یہ زید تمہارے لئے کافی ہے۔ الحِسَاب: کافی۔ کہا جاتا ہے: اعطاه عطاءً حِسَابًا: اس نے اس کو کافی دیا۔

۵۔ حَسَّبَ المیتَ: میت کو کفنا کر دفنانا یا پتھروں میں دفن کرنا۔ الحِسْبَة (مص): میت کی تکفین کے بعد تدفین، پتھروں میں تدفین۔

۶۔ حَسَّبَ ہ: کو تکیہ دینا۔ تَحَسَّبَ: تکیہ لگانا۔ الحُسْبَانَة و المِحْسَبَة: چھوٹا تکیہ۔

۷۔ تَحَسَّبَ الخبرَ: خبر دریافت کرنا۔ ـ ہ: کو پہچاننا، ذہن میں رکھنا۔ اِحْتَسَبَ ما عنده: کو آزمانا۔

۸۔ اِحْتَسَبَ علیه الأمرَ: کو ناپسندیدہ بات سے روکنا۔

۹۔ احتسب ولداً له: بڑی عمر کے بچے کو کھو دینا۔ اگر چھوٹی عمر کا بچہ مرجائے تو کہا جاتا ہے: افترطه۔

۱۰۔ الحُسْبَان واحد حُسْبَانَة: چھوٹے تیر۔ الحُسْبَانَة: کڑک، بدلی، اولہ۔

☆ حَسَبَ ـ حَسْبًا و حِسابًا و حِسْبَانًا و حُسبانًا: حساب لگانا، گننا، شمار کرنا، حساب کرنا، گنتی کرنا، اندازہ کرنا، لگانا، تخمینہ کرنا، پیش بندی کرنا۔ ـ علی: کے نام درج کرنا، کے نام لکھنا، کے حساب میں درج کرنا۔ ـ ہ ل: کسی رقم کا اندراج کسی کے حساب میں بطور ادا شدہ لکھنا۔ حسب حسابه: کسی چیز یا شخص کا خیال کرنا، یا حساب میں رکھنا، ـ سے حساب چکانا، پر انحصار کرنا، بھروسہ کرنا۔ حسب حسابًا ل: بمعنی سابق نیز، کسی شخص یا چیز کو اہمیت دینا۔ حسب الف حساب ل: کے بارے میں ہزاروں اندیشے رکھنا۔ حَسِبَ ـ حِسبانًا و مَحْسَبَةً و مَحْسِبَةً ہ ہ: کو کوئی خیال کرنا، سمجھنا۔ ـ: خیال کرنا، یقین کرنا، فرض کرنا۔ ـ ہ من: کو سے متعلق خیال کرنا، سمجھنا، کو میں شمار کرنا۔ ـ فی ہ: کسی شخص میں کچھ دیکھنا۔ حَسُبَ ـ حَسَبًا و حَسَابَةً: شریف الاصل ہونا، خاندانی ہونا، بہت محترم ہونا، کا قدر کیا جانا۔ حَاسَبَ ہ: سے حساب چکانا، صاف کرنا، سے بدلہ لینا، سے بدلہ چکانا، سے باز پرس کرنا، کا محاسبہ کرنا، مواخذہ کرنا، کو ذمہ دار قرار دینا، کو جواب دہ بنانا۔ حَاسَبَ علی نفسه: محتاط ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا۔ تَحَسَّبَ: محتاط ہونا، چوکس ہونا، چوکنا ہونا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ ـ ہ: کو جاننا چاہنا، کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ تَحَاسَبَ: باہمی حساب چکانا۔ اِحْتَسَبَ: کے ذمہ لکھنا، کھاتے میں جمع کرنا۔ ـ ہ/ب: کو خاطر میں لانا، اہمیت دینا، کی طرف توجہ کرنا، کی گنجائش رکھنا، کو مدنظر رکھنا، کے پیش نظر نرمی کرنا، سے حساب چکانا۔ ـ: نیکی آگے بھیج کر اللہ تعالیٰ سے آخرت میں انعام کی توقع کرنا۔ احتسب ولداً: بیٹے کا مرجانا۔ احتسب عند اللّٰہ الشیءَ: آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی توقع میں کسی چیز کی قربانی دینا۔ ـ ہ علی: کے عوض کچھ رقم بطور اجرت لینا۔ ـ: خیال کرنا، یقین کرنا، فرض کرنا۔ ـ ہ ہ: کو غلطی سے کوئی سمجھ بیٹھنا۔ ـ ب: پر قانع، مطمئن، راضی، صابر یا شاکر ہونا۔ ـ ہ علی: کو میں ناپسند کرنا، ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، میں پر اعتراض کرنا، میں کو مستر د کرنا۔ ـ علی: سے محاسبہ کرنا، باز پرس کرنا، مواخذہ کرنا، سے حساب مانگنا، سے کی توجہ طلب کرنا۔ حَسْبُكَ أن: یہ کہنا کافی ہے کہ، تم خوب جانتے ہو جب تم سنو کہ، تمہیں صرف...... کی ضرورت ہے۔ بحسبك مُقْنِعًا ان: تمہیں قائل کرنے کے لئے کہ...... یہ کافی ہوگا۔ و حَسْبُكَ بِهذَا كُلِّه شرًّا: لیکن یہ منفی پہلو اس قابل نہیں کہ انہیں مزید برداشت کیا جائے۔ فَحَسْب: صرف، زیادہ نہیں، اور بس اتنا ہی، یہی سب ہے، فقط۔ مجلس حَسْبِی جمع مَجَالِس

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حسبة: وصیت کی تصدیق کی عدالت، سرپرستی کے متعلق عدالت۔ حَسَب جمع احساب: پیمانہ، حد، درجہ مقدار، رقم، قیمت، احترام، کسی کا بہت احترام، شریف نسل یانسب۔ حَسَبَ و بِحَسَبِ و علی حَسَبِ: کے مطابق، کے حسب حال، کے مناسب، پرمنحصر۔ حَسَبَمَا: کے مطابق، پرمنحصر کہ کیونکہ کی طرح۔ حسبما اِتَّفَقَ: اگرچہ اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، جیسے ہوا پایا ہو۔ حِسْبَة: رقم، حسابی مسئلہ۔ حسیب: محترم، معزز، شریف، خاندانی، عالی النسب۔ کان فی الحُسبان: متوقع ہونا، مدنظر ہونا، کی گنجائش ہونا۔ کان فی الحُسْبان أن: اس کی توقع تھی کہ۔ حسبانی ان: مجھے توقع ہے کہ۔ حسابٌ: گنتی، شمار، اندازہ، جانچ، پڑتال، دوراندیشی، احتیاط، غور، سوچ بچار جمع حسابات: بل، فہرست، بجٹ، خرچہ کی تفصیل، حساب حساب، بنک میں حساب۔ جمع حسابات: کھاتہ نویسی (book keeping)۔ علم الحساب: حساب (کاعلم)۔ حساب التفاضل: احصاء تفریقی (differential calculus)۔ حساب التکامل: حساب کلیات integral calculus۔ کان فی حسابه: اسے اس کی توقع تھی، اس نے اس سے حساب چکایا، وہ اس کے لئے تیار تھا۔ عمل حسابًا له: کی طرف توجہ کرنا، سے حساب چکانا۔ الحسابُ الختامی اور حساب نہائی: آخری حساب، حساب کی آخری تفصیل۔ دعاه اِلی الحساب: اس نے اس کا محاسبہ کیا، اس سے باز پرس کی، اس کا مواخذہ کیا۔ یوم الحساب: حساب کا دن، انصاف کا دن۔ اقام حسابًا ل: کو ادائیگی کے لئے، حساب پیش کرنا، بلاحساب: بے حد، غیر محدود حد تک۔ من غیر حساب: اندھادھند، یونہی، بے سوچے سمجھے، دوراندیشی کے بغیر۔ لحساب فلان: کے ذمے، کے خرچ میں، کے مفاد کے خلاف۔ لَقِیَ سوءَ الحساب: اس کے ساتھ براسلوک کیا گیا، وہ ناگوار واقعہ سے دوچار ہوا۔ حِسابٌ جارٍ: کرنٹ اکاؤنٹ۔ حسابات صندوق التوفیر: سیونگ بنک کے حساب Savigns bank accounts۔ حساب موقوف: بند حساب۔ حسابات دوبیة: دوہرا کھاتہ۔ الحساب الشرقی: جولین کیلنڈر۔ الحساب الغربی: جورجین کیلنڈر۔ حسابی: حساب کا، حساب کے متعلق، ریاضی کا، ریاضی سے متعلق، شمار سے متعلق۔ مُحاسَبة جمع مُحاسَبات: بے باقی، کھاتہ نویسی، ضمیر کا جائزہ۔ قسم المحاسبة: محکمہ اکاونٹ، دفتر کمپٹرولر، کلیرنگ ہاؤس۔ مَحْسُوب جمع محسوبون و محاسیب: متوسل، زیرنگرانی یا زیرحمایت شخص، چہیتا، منظورنظر، پسندیدہ، مرغوب۔ ـ علی: کا مطیع، تابعدار، فرمانبردار، تابع فرمان، معاون۔ حاسِب: گننے والا، شمار کرنے والا، حساب دان، کمپیوٹر، کیلکولیٹر۔ مَحْسُوبیة: عزت واحترام (کسی شخص کا)، امتیازی حیثیت، سرپرستی، منظورنظری، مرغوبیت، جانبداری، جنبہ داری، پاسداری۔ مُحاسِب و مُحاسِبْجی: اکاؤنٹنٹ، بک کیپر، کمپٹرولر، آڈیٹر۔ مُحْتَسَب: نقصان، تکلیف، مصیبت وغیرہ جس کو جھیلنے کے بدلے کوئی شخص آخرت میں انعام کی توقع رکھے۔

حسد: حَسَدَ ـ حَسَدًا و حَسادَةً و حَسَّدَ فلانًا نعمتَهُ و علی نعمته: کسی کی نعمت کے زوال اور اپنے لئے اس کے حصول کی تمنا کرنا یا آرزو رکھنا صفت: حاسِد جمع حُسَّاد و حَسَدَه و حُسَّد۔ أحْسَدَه: کو حاسد پانا۔ تَحاسَدَا: ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ الحَسُود جمع حُسُد (مذکر و مؤنث کے لئے) طبعی حاسد۔ الحَسّاد: بہت حاسد۔ المَحْسَدَة: حسد کا باعث وسبب۔

☆ حَسَدَ ـ حَسَدًا ہ علی/ہ: سے پرجلنا، حسد کرنا، خار کھانا، رشک کرنا۔ تَحاسَدَ: ایک دوسرے سے حسد کرنا، جلنا، خار کھانا، ایک دوسرے پر رشک کرنا۔ حَسَد: حسد، خار، رشک۔ حاسد جمع حُسّاد و حَسَدة: حاسد، خار کھانے والا، رشک کرنے والا، حسدانگیز، جلنے والا۔ حَسُود جمع حُسُد: حاسد، حسد کرنے والا، جلنے والا۔ تَحاسُدٌ: باہمی حسد۔ محسود: باعث رشک، بدنظری کا شکار۔

حسر: ۱۔ حَسَرَ ـ حُسُورًا البصرُ: بینائی کا کمزور ہوجانا، نگاہ کا تھک جانا۔ ـــ الرجلَ او الدابَّةَ: آدمی یا جانور کا تھکنا۔ ـ الدابَّةَ: جانور کو چلا کر تھکانا۔ حَسِرَ ـ حَسَرًا: تھکنا۔ أحْسَرَ الدابَّةَ: جانور کو چلا کر تھکانا۔ اِسْتَحْسَرَ: تھکنا۔ الحَسِر: تھکانے والا۔ الحَسِیر جمع حَسْرَی: تھکاماندہ کمزور، تھکانے والا۔ المَحْسُورُ البصر: تھکی ہوئی نگاہ والا۔

۲۔ حَسَرَ ـ حَسْرًا الشیءَ: کو کھولنا۔ کہا جاتا ہے: حسر کُمَّه عن ذراعه: اس نے اپنی آستین چڑھائی۔ حسرت الجاریةُ خِمارَها عن [illegible] صفت: حاسِر جمع حُسَّر و حَواسِر۔ ـــ الغصنَ: ٹہنی کو چھیلنا۔ ـ الشیءُ: ظاہر ہونا۔ ـ الماءُ: پانی کا نیچے اتر جانا اور خشک ہوجانا۔ حَسَّرَ الطیرُ: پرندے کے پر جھڑنا۔ تَحَسَّرَتِ المرأةُ: عورت کا چہرہ کھول کر بیٹھنا۔ ـ الشعَرُ او الریشُ: بالوں یا پروں کا گرنا۔ ـــ الطائرُ: پرندے کے پروں کا گرنا۔ اِنْحَسَرَ الشیءُ: ظاہر ہونا۔ ـ ت الطیرُ: پرندہ کا پرانے پر گرا کر نئے پر نکالنا۔ الحُسَّر: جنگ میں پیادہ فوجی جن کے چہرے اور سر کھلے ہوں، زرہ اور خود نہ پہنی ہو۔ الحاسِر (فا): جس نے پگڑی، زرہ وغیرہ نہ پہنی ہو، عورت جس نے اپنے چہرہ سے اوڑھنی اٹھا رکھی ہو۔ المَحْسِر و المَحْسَر جمع مَحاسِر: چہرہ، باطن (کہا جاتا ہے: فلانٌ ملیح المنظر کریم المَحْسَر: فلاں شخص خوبصورت اور شریف باطن ہے) طبیعت۔ کہا جاتا ہے: ارض عاریة المحاسر: نباتات سے خالی زمین۔

۳۔ حَسِرَ ـ حَسَرًا و حَسْرَةً: افسوس کرنا۔ حَسَّرَه: کو افسوس کرانا، کو افسوس کرنے پر اکسانا۔ تَحَسَّرَ علیه: پر افسوس کرنا۔ الحَسِر: افسوس کرنے والا۔ الحَسِیر جمع حَسْرَی: افسوس کرنے والا۔ الحَسْران: وہ شخص جسے اپنی کھوئی ہوئی چیز پر سخت حسرت وندامت ہو۔ التحاسیر واحد تحسیر: مصائب، آفات۔

۴۔ حَسَرَ ـ حَسْرًا البیتَ: مکان میں جھاڑو دینا۔ المِحْسَرة: جھاڑو۔

۵۔ حَسَّرَه: کو تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا، حقیر سمجھنا۔

☆ حَسَرَ ـ حَسْرًا ہ عن: کو سے اٹھانا، ہٹانا، (جیسے ڈھکن، پردہ وغیرہ)۔ ـــ عن: کو بے نقاب کرنا، کو ننگا رکھنا، سے پردہ اٹھانا۔ ـــ حُسُورًا: نگاہ کمزور ہونا۔ حَسِرَ ـ حَسَرًا و حَسْرَةً علی: پر متاسف ہونا، پچھتانا، سے رنجیدہ ہونا، المناک ہونا، پر آہ بھرنا۔ حَسَرَ ـ و حَسِرَ ـ حَسَرًا: تھک جانا، نڈھال ہوجانا۔ حَسَّرَه: کو تھکانا، نڈھال کرنا، کمزور کرنا، کا عرق نچوڑ لینا، کو رنجیدہ کرنا، غمگین کرنا، کو تکلیف یا رنج پہنچانا۔ ـ ہ عن: سے ڈھکن وغیرہ ہٹانا، کو ننگا رکھنا، کو بے نقاب کرنا۔ تَحَسَّرَ علی: سے مغموم ہونا، رنجیدہ ہونا، تکلیف پہنچنا، پر آہیں بھرنا۔ اِنْحَسَرَ عن: سے اٹھنا، ہٹنا۔ ـــ کُمُّهُ عن ذراعه: آستین کا بازو سے چڑھنا۔ ـــ عن: سے اچانک غائب ہوجانا۔ حَسَر: تھکاوٹ، کمزوری، ضعف، ناتوانی۔ حَسَرُ البَصَر:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دور کی نظر کا کمزور ہونا۔ حَسِر: رنجیدہ، غمگین، تھکا ہوا، نڈھال، پژمردہ، تھکا ماندہ، تھکا دینے والا۔ حَسَرَة جمع حَسَرات: افسوس، تکلیف، مصیبت، آہ، سخت غم، رنج، الم، قہر پڑنا۔ یا لَلْحَسَرةِ: حیف، افسوس، ہائے، افسوس ہے کہ، بدقسمتی سے۔ یا حَسَرَتی اور وا حَسَرتَاہ: بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بری بات حَسِیر جمع حَسْرَی: تھکا ہوا، تھکا ماندہ، تھک کر نڈھال، کم (نظر)، دور کی نظر کمزور والا۔ حَسِیرُ البَصَر: جس کی دور کی نظر کمزور ہو۔ حُسُور: دور کی نظر کی کمزوری۔ حَسَران: متاسف، افسوس کرنے والا، غمگین، مصیبت زدہ، رنجیدہ۔

حسف: ۱۔ حَسَفَ - حَسْفًا السحابُ: بادل کا چلنا۔ ــ الغَنَمَ: بکریوں کو ہانکنا۔ الحَسْفَة: پتلا بادل۔

۲۔ حَسَفَ - حَسْفًا و حَسَّفَ التَمْرَ: کھجور کو صاف کرنا۔ ــ القرحَةَ: زخم کو چھیلنا۔ اَحْسَفَ التَمْرَ: صاف اور عمدہ کھجوروں کو غیر صاف اور ردّی کھجوروں میں ملانا۔ تَحَسَّفَ الجلدُ: جلد کا چھلنا۔ الحُسَاف: ہر چیز کا بقیہ، کھائی ہوئی چیز کا بچا کھچا حصہ۔ الحُسَافَة: ردّی کھجوریں یا کھجور کے چھلکے (کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یُعْطِی من البُرّ الاَحُسَافَتَهُ و من التمر الاحُسَافَتَهُ: فلاں شخص گیہوں میں سے محض اس کی پھٹکن اور کھجوروں میں سے صرف ردی کھجور دیتا ہے) تھوڑا پانی۔ حُسَافَةُ الناس: رذیل لوگ۔

۳۔ حَسَفَ - حَسْفًا و حَسِیفًا تِ الحیَّةُ: سانپ کا پھنکارنا۔

۴۔ حَسَفَ - حَسْفًا و حُسَافًا الزرعَ: کھیتی کاٹنا۔

۵۔ حَسِفَ - حَسَفًا لَه: کے لئے دل میں کینہ رکھنا، سے ناراض ہونا، پرغضبناک ہونا۔ الحُسَافَة و الحَسِیفَة: دشمنی، غیظ۔ کہتے ہیں: رجع بحسیفة نفسِهِ: وہ اپنی حاجت روائی کے بغیر لوٹ آیا۔

۶۔ تَحَسَّفَ ت اوبارُ الابل: اونٹ کے بالوں کا جھڑ جانا۔

۷۔ اِنْحَسَفَ الشیءُ فی یدی: ہاتھ میں ریزہ ریزہ ہونا۔

حسك: ۱۔ حَسِكَ - حَسَكًا علیه: پرغضبناک ہونا۔ صفت: حَسِك۔ الحَسِیکة والحَسَکَة والحُسَاکَة: دشمنی، کینہ۔

۲۔ حَسِكَ - ت الدابّةُ: جانور کا دانہ چبانا۔ أَحْسَكَ الدابَّةَ: جانور کو چبانے کے لئے دانہ دینا۔ الحَسِیکة: جانور کا دانہ۔

۳۔ أَحْسَكَ النباتُ: پودے کا کانٹے دار ہونا۔ الحَسَك واحد حَسَکَة (ن): کانٹے دار پودہ۔ مچھلی کی باریک ہڈی۔ الحَسِیکة (ح): خار پشت، سیہی۔

۴۔ الحَسِیك: پست قد۔

حَسَك واحد حسکة: کانٹے، سُولیں، بالیں، نوکدار کیل یا سلاخیں، مچھلی کی ہڈیاں، اناج کی بالیوں کے بال، جوار یا مکئی کے ریشے، کئی خاردار جڑی بوٹیوں کا نام۔ حَسَکی: خاردار، کانٹے دار، سخت۔

حسل: ۱۔ حَسَلَ - حَسْلاً الدابَّةَ: جانور کو تیز ہانکنا۔

۲۔ حَسَلَ - حَسْلاً الشیءَ: کو مسترد کرنا، نامنظور کرنا۔ حُسِلَ بِه: ذلیل کیا جانا، ذلیل ہونا۔ حَسَّلَ بنفسه: اپنے آپ کو ذلیل کرنا، دنائت اختیار کرنا۔ الحَسِیل جمع حُسُل: گھٹیا چیز۔ الحُسَالَة: جو وغیرہ کی بھوسی۔ ــ والحَسِیلَة: قوم کے گھٹیا لوگ۔ المَحْسُول: گھٹیا، ردی۔

۳۔ تَحَسَّلَ و اِحْتَسَلَ: گوہ کا بچہ شکار کرنا۔ الحِسْل جمع حِسَالَة و أَحْسَال و حُسُول و حِسْلان (ح): گوہ کا بچہ۔ کہا جاتا ہے: لا آتِیك سِنّ الحِسْل: میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ (گوہ کے دانت اس کے مرنے تک نہیں گرتے اس لئے ان سے ہمیشگی مراد لی جاتی ہے)۔

۴۔ الحَسِیل واحد حسیلة (ح): گائے کے بچے۔

حسم: حَسَمَ - حَسْمًا ہ: کو جڑ سے کاٹنا۔ اِنْحَسَمَ: جڑ سے کٹ جانا۔ ــ العِرقَ: رگ کاٹ کر داغ دینا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ ــ الداءَ: بیماری کو دوا سے دور کرنا۔ ــ ہ الشیءَ: کو سے روکنا، منع کرنا۔ الأحْسَم: تجربہ کار، فیصلہ کن آدمی۔ الحُسَام: تیز کاٹنے والی تلوار۔ حُسَامُ السیف: تلوار کی دھار۔ الحُسُوم: نامبارک، منحوس۔ کہا جاتا ہے: ایامٌ حُسُومٌ و اَیّامُ حُسُومٍ: نامبارک دن (بصورت وصف اضافت)۔ المَحْسَمَة: کاٹنے کا سبب۔ کہا جاتا ہے: هذا مَحْسَمَةٌ للداء: یہ بیماری کو دور کرتا ہے۔

حَسَمَ - حَسْمًا ہ: کو کاٹنا، کاٹ ڈالنا، الگ کرنا، جدا کرنا، کو مکمل کرنا، ختم کرنا، آخری صورت دینا، (مسئلہ) کا فیصلہ کرنا، پر فیصلہ دینا، (بحث) کو طے کرنا، کو (سے) منہا کرنا، تفریق کرنا۔ اِنْحَسَمَ: کٹ جانا، الگ ہو جانا، مکمل ہو جانا (بحث وغیرہ) طے ہو جانا۔ حَسْم: ختم کرنا، تکمیل، اختتام، فیصلہ کرنا، تسویہ، انقطاع، بند کرنا، بند ہونا، تفریق، منہائی، کمشن دینا۔ حُسَام: تلوار، تلوار کی دھار۔ حُسُوم: مہلک، کاری، صبر آزما، تکلیف دہ، تھکا دینے والا (جمع) راتیں، دن، سال۔ حَاسِم: فیصلہ کن، آخری، قطعی، حتمی، غیر مبہم، واضح، غیر مشروط، ناطق۔

حسن: حَسُنَ و حَسَنَ - حُسْنًا: خوبصورت ہونا، اچھا ہونا۔ صفت: حَسَن جمع حِسَان و حُسَّان جمع حُسَّانون، و حاسِن و حَسِین مؤنث حَسَنَة و حَسْناء جمع حِسَان و حَسَنات۔ (مبالغہ میں): حُسَّان مؤنث حُسَّانة۔ حَسَّنَ ہ: کو آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا۔ حَاسَنَ مُحَاسَنَةً ہُ: پر خوبصورتی میں غالب آنا، سے لطف و مہربانی سے پیش آنا، خوش معاملگی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے: اِنّی لأُحَاسِنُ بِكَ الناسَ: میں لوگوں پر تمہارے محاسن کی وجہ سے فخر کرتا ہوں۔ أَحْسَنَ: اچھا کام کرنا، نیکی کرنا، اچھے طریقے سے کرنا۔ ــ الشیءَ: کو اچھا بنانا، کو اچھی طرح جاننا۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ یُحْسِنُ القراءَةَ: فلاں شخص عمدہ طریقے سے پڑھتا ہے)۔ ــ الیه و به: سے نیک سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ تَحَسَّنَ: خوبصورت ہونا، سر مونڈنا۔ (کہتے ہیں: دَخَلَ الحمّام فَحَسَّنَ: وہ حمام میں گیا اور حجامت بنائی)۔ ــ بکذا: سے آراستہ ہونا۔ اِسْتَحْسَنَ ہ: کو اچھا جاننا، خوبصورت سمجھنا۔ الحُسْن جمع مَحَاسِن: (غیر قیاسی): خوبصورتی۔ ــ و الحَسَن (ع ا): کہنی کے پاس کی ہڈی۔ المحاسِن: بدن کی خوبصورت جگہیں۔ حُسْنُ ساعة (ن): ایک پودا جو غروب آفتاب سے ایک گھنٹا پہلے کھلتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ گویا ایک ساعت کی بہار رکھتا ہے۔ ست الحُسْن (ن): ایک قسم کی بیل جس پر خوبصورت پھول لگتے ہیں۔ الحَسَنة جمع حَسَنات: نیک کام، نیکی، بھلائی، فائدہ۔ الأَحْسَن جمع اَحَاسِن مؤنث حُسْنَی: زیادہ اچھا، زیادہ خوبصورت۔ خلاف قاعدہ بعض اوقات اس کی تصغیر لا کر کہتے ہیں۔ ما اُحَیْسِنَ زیداً۔ اَحَاسِنُ القومِ: قوم کے خوبصورت یا اچھے اشخاص۔ الحُسْنَی جمع حُسْنَیَات و حُسَن: اچھا کام، اچھا انجام، کامیابی، اچھی عاقبت، شہادت (اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا)، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی جیسے کریم، رحیم وغیرہ ان کی تعداد ۹۹ ہے۔ ان کو ترتیب دیا گیا ہے اور ایک مقررہ انداز سے ان کی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تلاوت کی جاتی ہے۔ الحُسْبَان: کامیابی، شہادت۔ کہا جاتا ہے: حُسَيْنَاه و حسيناؤه ان يفعل كذا: وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام جو کرسکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرے۔ الحَسُّون (ح): ایک چھوٹا خوش آواز خوبصورت رنگوں والا پرندہ۔ اسے شوَیکی بھی کہا جاتا ہے۔ المِحْسَان: بہت بھلائی کرنے والا۔ المَحْسَنَة: خوبصورت بنانے والی چیز۔ کہا جاتا ہے: هذا طعامٌ مَحْسَنَةٌ للجسم: یہ جسم کو خوبصورت بنانے والا کھانا ہے۔ التحاسين: خوبصورت چیزیں۔ کہا جاتا ہے: ما أَبْدَعَ تحاسينَ الطاؤوس و تزايِنَهُ: مور کی خوبیاں اور اس کی خوش منظری کس قدر بھلی اور عجیب ہے!

۲۔ اَحْسَنَ الرجلُ: بلند ٹیلہ پر بیٹھنا۔ الحَسَن: بلند ٹیلہ۔

۳۔ الحَسَنَان: حضرت علیؓ بن ابی طالب کے بیٹے حَسَن اور حُسَین۔

☆ حَسُنَ ـ حُسْناً: خوبصورت ہونا، پیارا ہونا، عمدہ ہونا، اچھا ہونا، مناسب ہونا، موزوں ہونا، ٹھیک، قرین مصلحت یا زیبا ہونا، اچھی حالت میں ہونا، دل پسند یا پسندیدہ حالت میں ہونا۔ إن حَسُنَ لَدَيْكَ: اگر تم اُسے پسند کرو، اگر یہ تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک لگے۔ يَحْسُنُ بِكَ ان: یہ تمہارے فائدے کی بات ہے کہ تم...... تمہیں چاہئے کہ......۔ حَسُنَ استعدادُه ل: وہ تو بالکل آمادہ تھا کہ......۔ حَسَّنَ ہ: کو خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، سنوارنا، زینت دینا، سنگارنا۔ (بیان) کو چیٹ پٹا بنانا: کی آرائش کرنا، سج دھج کرنا، کو سدھارنا، بہتر کرنا، ترقی دینا، زرخیز کرنا، کو بہتر شکل دینا، بہتر بنانا، کو بہتر شکل میں پیش کرنا، مناسب روشنی میں پیش کرنا۔ ــ ہ ل: کی سے ایک عمدہ یا پسندیدہ چیز کے طور پر تصویر کھینچنا۔ ــ ہ: (کسی ناگوار یا مضرت رساں چیز کو) گوارا بنانا۔ حَاسَنَ ہ: سے لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ أَحْسَنَ: اچھا کرنا، اچھی طرح کرنا۔ ـــ ہ: کو اچھی طرح کرنا، مہارت سے کرنا، عمدہ طور پر کرنا، کو کرنا جاننا، کو کرسکنا، کا استاد ہو جانا، پر حاوی ہونا، کمال حاصل کرنا، پر قابو ہونا، میں ماہر ہونا (زبان، فن، دستکاری وغیرہ) کا ماہر ہونا، سے خوب واقف ہونا۔ ـــ: نیکی کرنا، بھلائی کرنا، مخیر ہونا۔ إلی/ب: سے نیکی کرنا، بھلائی کرنا، پر کرم فرمائی کرنا، نوازش کرنا، مہربانی کرنا، نوازشیں یا مہربانیاں کرنا، سے مروت کرنا، خوش اخلاق ہونا، بامروت ہونا۔ ــ الی: کو خیرات دینا، مَا أَحْسَنَهُ: وہ کتنا اچھا ہے! وہ کتنا خوبصورت ہے!۔ اَحْسَنْتَ: شاباش۔ أَحْسَنَ الالمانية: جرمن زبان اچھی طرح جاننا، جرمن زبان پر حاوی ہونا۔ اَحْسَنَ التسديد: اچھا یا صحیح نشانہ لینا۔ أَحْسَنَ مَشُورَتَهُ: اچھا مشورہ دینا۔ اَحْسَنَ الظنَّ ب: کے متعلق اچھی رائے رکھنا، کے متعلق امید افزا رائے قائم کرنا۔ أَحْسَنَ مُعَامَلَتَهُ: سے اچھا برتاؤ کرنا۔ تَحَسَّنَ: عمدہ ہونا، خوبصورت ہونا، زیادہ حسین ہونا، بہتر ہونا، سدھرنا۔ اِسْتَحْسَنَ ہ: کو اچھا، عمدہ وغیرہ سمجھنا، کو درست خیال کرنا، مناسب سمجھنا، قرین مصلحت سمجھنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کو منظور کرنا، سے اغماض کرنا، چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، کو پسند کرنے لگنا، کی داد دینا، قدر دانی کرنا، سے محظوظ ہونا، کا لطف اٹھانا، میں لذت پانا نیز بمعنی أَحْسَنَ۔ إسْتَحْسَنَ الانجليزيةَ: انگریزی زبان اچھی طرح جاننا۔ اُسْتُحْسِنَ: اچھا ہونا، قرین مصلحت ہونا، قابل تعریف ہونا، سراہنے کے قابل ہونا، پسندیدہ ہونا۔ حُسْن: خوبصورتی، خوبروئی جمال، حسن، دلکشی، دلربائی، حسن و جمال، بزرگی، فضیلت، سربلندی، برتری، فوقیت، بالادستی، خوبی، عمدگی، کمال، اعلیٰ درجے کی خوبی۔ لِحُسْنِ الحَظِّ: خوش قسمتی سے۔ حُسْنُ السلوك: اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، حسن سلوک، اچھی روش، اچھا طور طریقہ۔ حسن السَيرِ و السلوك: بے داغ، پاک صاف زندگی۔ حُسْنُ التَصَرُّف: ہوشمندی، زیرکی، دور اندیشی، سمجھ، شعور، عقل، فرزانگی، ذاتی شخصی یا انفرادی رائے، فہم، یا بصیرت۔ حُسْنُ الظن: اچھی رائے، مفید مطلب رائے، پسندیدہ خیال۔ حُسْنُ التَعْبِير: کڑوی بات کی نرم الفاظ میں ادائیگی۔ حُسْنُ القصد (النية): اچھا ارادہ، خلوص۔ حسنُ يوسف: تل، خال، حسین خط۔ بِتُّ الحُسن: ایک قسم کی بیل جس پر خوبصورت پھول لگتے ہیں، مہلک مکوے کا پودا، بلازر، بھلاواں، مکو۔ حَسَنٌ جمع حِسَان: خوبصورت، خوبرو، دلکش، جاذب نظر، عشق انگیز، خوب، اچھا، عمدہ، خوشگوار، سہانا، دلپذیر، شاندار، برتر، نفیس، بانکا، چھیلا۔ حَسَناً: خوب، شاندار طور پر، خوبصورتی سے، بہت خوب۔ الحِسَان: خواتین، اونچاریت کا ٹیلہ۔ الحَسَنِيُون: حضرت حسنؓ بن علیؓ و فاطمہؓ کی اولاد۔ اَحْسَن جمع اَحَاسِن: بہتر زیادہ عمدہ، زیادہ دلکش، زیادہ حسین، زیادہ معقول، زیادہ شاندار، زیادہ فائق، هو احسن حالاً منهم: وہ ان سے زیادہ آسودہ یا خوش حال ہے۔ بالتي هِيَ احْسَن: دوستانہ طریقہ سے، آشتی سے، شفقت سے، لطف و کرم سے، نوازش سے۔ حَسْنَاء جمع حِسَان: خوبصورت (عورت)، قابل دید، دیدنی، دیکھنے کے قابل، گوری، البیلی، حسینہ، حسینوں کی سرتاج۔ الحُسْنَى جمع الحُسنات: بہترین نتیجہ، خوش گواری، صاف ستھرا ذریعہ، دوستانہ انداز۔ حَسَنَة جمع حَسَنَات: نیکی، بھلائی، سخاوت، دان، خیرات، عطیہ، بخشش، احسان۔ حَسُّون: ایک چھوٹا پرندہ زرد پروں والا یورپ میں عام ہے۔ مَحْسَنَة: اچھی اور عمدہ چیز، فائدہ جمع مَحَاسِن: خوشنما اور دلکش شکل و صورت، چہرہ مہرہ، حسن و جمال، دلفریبیاں، دلکشیاں، کششیں، ذاتی جوہر، فوائد، اچھی خصوصیات، اچھائیاں، خوبیاں۔ تحاسين: آرائش، زیبائش، اسباب آرائش، آرائش کا سامان۔ تحسين النسل: علم اصلاح نسلِ انسانی۔ مُحَاسنة: دوستانہ سلوک، مہربانی، آشتی۔ فی التحسن: روبہ صحت۔ مُحَسِّن: آرائش کرنے والا، خوبصورت بنانے والا، ترقی دینے والا، بہتر کرنے والا جمع مُحَسِّنَات: سنگار کا سامان، غازہ و گلگونہ۔ مُحْسِن: کرم فرما، مہربان، سخی، فیاض، مخیر، کریم النفس، خیر خواہ۔ مُسْتَحْسَن: منظور، پسندیدہ، خوشگوار، قابل تعریف، سراہنے کے قابل، سہانا، دلپذیر، موافق، مطابق۔ تحسين: خوبصورت بنانا، سجانا، آرائش کرنا، زیبائش، آرائش، سجاوٹ، ترقی، بہتر، بنانا، شاندار بنانا، مکمل کرنا، آخری صورت دینا۔

حسا: حَسَا ـ حَسْوًا و تَحَسَّى و إحْتَسَى المرقَ: شوربا تھوڑا تھوڑا پینا۔ ـــ الطائرُ الماءَ: پرندے کا چونچ سے پانی پینا۔ حَسَّى و اِحْتَسَى و حَاسَى الرَّجلَ المَرَقَ: کو شوربا تھوڑا تھوڑا پلانا۔ تَحَاسيا: ایک دوسرے کو شوربا پلانا۔ الحَسْو و الحَسَاء و الحَسَاء: ہر پی جانے والی رقیق اور پتلی چیز (اسی سے ہے: يومٌ كَحَسْوِ الطير: بہت چھوٹا دن) ایک قسم کی غذا جو آٹے اور پانی سے تیار کی جاتی ہے، آج کل اسے شوربا کہتے ہیں۔ الحَسُوّ: بمعنی الحَسُو: بہت گھونٹ گھونٹ کرکے پینے والا۔ الحُسْوَة جمع أَحْسِيَة و اَحْسُوَة جمع احاسٍ: ایک گھونٹ۔ کہا جاتا ہے: في الأناء حُسْوَةٌ: برتن میں ایک گھونٹ کی مقدار ہے۔ الحَسْوَة جمع حَسَوَات: حَسَا کا اسم مرۃ: ایک گھونٹ۔ الحَسِيَّة: پی جانے والی شئے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

حسی: حَسَی ـ حَسْیًا و اِحْتَسَی: کھودنا۔ الحِسَی او الحَسَیَ او الحِسْیَ جمع اَحْسَاء و حِساء: دلدلی زمین۔ حَسِیَ و اِحْتَسَی ما فی نفسہ: دل کی بات کو آزمانا۔

○ حَسَا ـ حَسْوًا و تَحَسَّی و احتسی ہ: کو پینا، کو ہونٹوں سے تھوڑا تھوڑا پینا، کی چسکی لینا۔ حَسُو و حَسَاء: شوربا یخنی حَسْوَۃ جمع حَسَوات: چسکی، گھونٹ۔ حُسْوَۃ جمع حُسُوات و اَحْسِیۃ: ایک چسکی، ایک گھونٹ، سیال چیز کی تھوڑی مقدار، شوربہ، یخنی، ایک قسم کا پتلا صاف شوربہ۔

حش: ۱۔ حَشَّ ـ حَشَّاتِ الیدُ: ہاتھ کا خشک یا شل ہوجانا۔ ــــ الوَلَدُ فی بطن الناقۃ: اونٹنی کے بچہ کا پیٹ میں خشک ہوجانا۔ اَحَشَّ ت الیدُ: ہاتھ کا شل ہوجانا، خشک ہوجانا۔ ــــ ت الناقۃُ او المرأۃُ: اونٹنی یا عورت کے پیٹ میں بچہ کا خشک ہوجانا۔ صفت: مُحش۔ اِسْتَحَشَّ تِ الیدُ: ہاتھ کا شل ہوجانا۔ الأُحْشُوش و المَحْشُوش: اپنی ماں کے پیٹ میں خشک ہوجانے والا بچہ۔

۲۔ حَشَّ ـ حَشًّا الحربَ: جنگ کو بھڑکانا۔ ــ النارَ: آگ جلانا، آگ کو لکڑی سے ہلانا۔ ــــ الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ المِحَش و المِحَشَّۃ: آگ ہلانے کی سیخ۔

۳۔ حَشَّ ـ حَشًّا المالَ: مال کو زیادہ کرنا، بڑھانا۔

۴۔ حَشَّ ـ حَشًّا الصیدَ: شکار کو دونوں جانبوں سے گھیر لینا۔ الحِشَاش جمع اَحِشّۃ: ہر چیز کا پہلو۔ کنارہ۔

۵۔ حَشَّ ـ حَشًّا العُشبَ: گھاس کاٹنا۔ ـ الفرسَ: گھوڑے کے آگے گھاس ڈالنا، اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے: اَحُشُّكَ و تَروثنی: میں تو تیرے سامنے گھاس ڈالتا ہوں اور تو مجھ پر لید کرتا ہے۔ یعنی تو نیکی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے۔ اَحَشَّ الکلأُ: گھاس کے کٹنے کا وقت قریب آنا۔ ــ ت الأرضُ: زمین کا بہت گھاس والی ہونا یا زمین پر گھاس اُگنا۔ ـ ہُ: کو گھاس کاٹنے میں مدد دینا۔ اِحْتَشَّ الحشیشَ: گھاس کو تلاش کرنا اور جمع کرنا۔ الحُشّ و الحَشّ و الحِشّ جمع حُشُوش: باغ۔ المَحَشّ و المَحَشَّۃ جمع مَحَاش: بہت گھاس والی جگہ۔ المِحَشّ: گھاس کاٹنے کی درانتی۔ الحَشیش واحد حشیشہ: خشک گھاس۔ الحشیشۃ او قِنّب الھند (ن) ایک طبی فوائد کی حامل بوٹی، بھنگ۔ حشیشۃ السلاك (ن): ایک سبزی کول میں استعمال ہوتی ہے جس سے وہ مزیدار ہوجاتی ہیں۔ حشیشۃ الدینار: ایک بیل جس کے پھل شراب میں تلخی پیدا کرتے ہیں۔ الحِشَاش جمع أَحِشّۃ: گھاس کی گون۔ الحَشّاش جمع حَشّاشون و حَشّاشۃ: گھاس جمع کرنے یا بیچنے والا، بھنگ پینے والا۔

۶۔ اَحَشَّ ہُ عن حاجتہ: سے جلدی کرانا۔

۷۔ اِسْتَحَشَّ الغصنُ: ٹہنی کا لمبی ہونا۔

۸۔ اِسْتَحَشَّ العظمُ: ہڈی کا باریک اور پتلی ہونا۔

۹۔ اِسْتَحَشَّ الرجلُ: پیاسا ہونا۔

۱۰۔ الحُشّ و الحَشّ و الحِشّ: کھجوروں کا جھنڈ، بول و براز، جائے ضرورت، پاخانہ۔ الحُشَاش و الحُشَاشۃ: بیمار یا زخمی میں زندگی کا آخری سانس۔ کہا جاتا ہے: حُشَاشاك ان تفعل کذا: زیادہ سے زیادہ تم ایسا کرسکتے ہو۔

۱۱۔ حَشْحَشَ تْہُ النارُ: کو آگ کا کر جلانا۔ حَشْحَشُوا و تَحَشْحَشُوا: اٹھنے کے لئے ہلنا، حرکت کرنا۔ تَحَشْحَشَ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا۔

○ حَشَّ ـ حَشًّا ہ: کو کاٹنا، (گھاس) کاٹنا، لائی یا کٹائی کرنا۔ حَشَّشَ: بھنگ پینا، حشیش اسم جنس جمع حَشَاشَ: جڑی بوٹیاں، گھاس، چری، گیاہ، چری کے پودے، گھاس پات گھاس پھونس، خس و خاشاک، خشک گھاس، چارہ۔ حشیش: بھنگ، بھنگ کے پودے کے پتوں اور پھولوں سے بنائی ہوئی مفرد دوا۔ مردہ پیدا ہونے والا بچہ۔ حشیش الدینار: ایک بیل جس کے پھل شراب میں تلخی پیدا کرتے ہیں۔ حشیشہ: جڑی بوٹی۔ حَشّاش جمع حَشّاشون: بھنگ پینے یا چبانے والے، حشیش کا نشہ کرنے والا، حشیش کا نشہ باز۔ حُشَاش و حُشَاشۃ: آخری سانس، زندگی کی آخری رمق۔ حشیشی: عرق رنگ کا۔ مِحَشّ و مِحَشَّۃ جمع مَحَاش: درانتی، آگ کریدنی۔ مِحَشَّۃ جمع مِحَشّات: تلائی کرانے کا اوزار، کھرپا۔ مَحْشَش اور مَحْشَش خانۃ: وہ جگہ جہاں بہت حشیش ہو۔ مَحْشَشَۃ جمع مَحَاشِش: وہ جگہ جہاں حشیش بکثرت ہو۔

حشأ: حَشَأَ ـ حَشْأً النارَ: آگ جلانا، روشن کرنا۔ ـ ہُ بسھمٍ: کے پیٹ میں تیر مارنا۔ ــ ہُ بسوطٍ: کے پیٹ یا پہلو پر کوڑا مارنا۔ المِحْشَاء جمع مَحَاشِی: موٹے کپڑے کی چادر، کمبل۔

حشب: أَحْشَبَہُ: کو غضبناک کرنا، ناراض کرنا۔ اِحْتَشَبُوا: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الحُشْبَۃ: لوگوں کی جماعت۔

حشد: [illegible] ... اُگ آنا۔

۲۔ حَشَدَ ـ حَشْدًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ اسی سے ہے: حَشَدَ الجنودَ للحرب: اس نے لشکر کو جنگ کے لئے جمع کیا۔ ـ القومُ: لوگوں کا پکارے جانے پر جلد جواب دینا۔ ـ ت الناقۃُ: اونٹنی کا تھن میں دودھ جمع کرنا۔ حَشَّدَ الشیءَ: چیز کو جمع کرنا۔ اَحْشَدَ و تَحَشَّدَ و تَحَاشَدَ و اِحْتَشَدَ القومُ: ایک غرض اور مقصد کے لئے جمع ہونا۔ کہا جاتا ہے: احتشدَ لنا فی الضیافۃ: اس نے ہماری مہمانی میں فراخ دلی سے کام لیا۔ احتشدَ لِفلانٍ فی کذا: اس نے فلاں شخص کے لئے ایک جماعت تیار کی۔ الحَشْد (مص) و الحَشَد جمع حُشُود: جماعت۔ کہا جاتا ہے: عندی حشدٌ من الناس: میرے پاس لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ عینٌ حُشُد: پانی نہ ختم ہونے والا چشمہ۔ الحَشِد جمع حُشُد: وہ شخص جو دوسرے کی مدد کرنے میں مال صرف کرنے اور کوشش میں دریغ نہ کرے۔ الحَاشِد (فا): مستعد و تیار (کہا جاتا ہے: فلانٌ حافِدٌ و حاشِدٌ: فلاں شخص اپنی خدمت اور کوشش میں چست اور محنتی ہے)، مستعدی سے اونٹنی کا دودھ دوہنے والا، بہت دانوں والا کھجور کا گچھا۔ المَحشُود: اپنے تھنوں میں جلد دودھ جمع کرنے والی اونٹنی۔ المَحْشُود: مُطاع جس کی خدمت میں لوگ چست ہوں۔ المَحَاشِد: محفلیں، مجلسیں۔

○ حَشَدَ ـ حَشْدًا ہ: خصوصاً فوج کو اکٹھا اور یکجا کرنا۔ ــ ہ: فوج کو فوجی خدمت کے لئے طلب کرنا، حرکت میں لانا۔ ــ ہ الی: کو کسی جگہ ڈھیر کرنا، جمع کرنا، حفاظت کے لئے رکھنا۔ حَشَّدَ ہ: کا انبار لگانا، ڈھیر لگانا، کو جمع کرنا، کو یکجا جمع کرنا (خصوصاً فوج کو)۔ تَحَشَّدَ و اِحْتَشَدَ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، مجتمع ہونا، فوجوں کا یکجا جمع ہونا، قطار بند ہونا۔ حَشْد جمع حُشُود: جمع ہونا، مجتمع ہونا، اکٹھا ہونا، اجتماع، ہجوم، عوام الناس، بھیڑ، انبوہ، ازدحام، ارتکاز، ایک مرکز پر اجتماع، (خصوصاً فوجوں کا)۔ تَحَشُّد: فوجوں کا ایک مرکز پر اجتماع، ارتکاز۔ اِحتِشَاد: اجتماع، بھیڑ، انبوہ، ازدحام، فوجی اجتماع۔ حَاشِد: بہت، متعدد، پرہجوم۔ حَاشِدۃ: بیٹری (battery)

حشر: ۱۔ حَشَرَ ـ حَشْرًا الناسَ: لوگوں کو جمع کرنا۔ یومُ المَحْشَر: یوم البعث، یوم المعاد، قیامت کا دن۔ الحَاشِر جمع حاشِرُون و حُشَّار (فا):

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جمع کرنے والا۔ المَحْشَر والمَحْشِر: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، قیامت کے دن لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

۲۔ حَشَرَ ـُ حَشْراً هُ عن بلاده: کوجلاوطن کرنا۔ ـ الجمعَ: کوایک جگہ سے نکالکر دوسری جگہ لیجانا۔

۳۔ حَشَرَ ـُ حَشْراً العودَ: لکڑی کوچھیل کر پتلا کرنا۔ الحَشْر (مص) جمع حُشُر من الآذان: باریک کان۔ کہاجاتا ہے: اُذُنٌ حَشْرٌ و اُذُنَانِ حَشْرٌ و آذانٌ حَشْرٌ: باریک کان (واحد تثنیہ اور جمع میں مصدر ہونے کی وجہ سے یکساں استعمال ہوتا ہے) ـــ مِن الأَسِنَّة: باریک نیزہ۔ حَشْوَر: پتلے ناک نقشے والا۔ کہاجاتا ہے: فرسٌ حَشْوَرٌ: اچھی ساخت کا گھوڑا۔ الحَشَرَة جمع حَشَر: دانہ سے لگا ہوا چھلکا۔

۴۔ حَشَرَ ـُ حَشْراً تِ السنةُ الشديدةُ المالَ: خشک سالی کا مویشیوں کو ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا۔ حُشِرتِ الوحوشُ: وحشی جانوروں کا مرنا، ہلاک ہونا۔

۵۔ حُشِرَ و اِحْتُشِرَ في رأسه: بڑے سر والا ہونا۔ حُشِرَ في بطنه: بڑے پیٹ والا ہونا، اور دیگر اعضائے بدن کے لئے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی بڑے بڑے اعضاء والا ہونا۔ الحَشْوَر: بڑے پیٹ والا، پھولے ہوئے پہلوؤں والا۔

۶۔ الحَشَرَة جمع حَشَرات (ح): کیڑے مکوڑے یا چھوٹے چھوٹے جانور۔ قاتِلُ الحَشَرات: کیڑے مار مادہ۔ الحُشَارَة: معمولی درجے کے لوگ۔

۷۔ حَشْرَجَ حَشْرَجَةً: جان کنی کے وقت سانس کا غرغرانا۔ الحَشْرَج: آبخورہ جس میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پہاڑی گڑھا جہاں صاف پانی ہو۔

○ حَشَرَ ـِ حَشْراً: کھچا کھچ بھرنا، لبالب بھرنا، ہجوم ہونا، ٹھسنا، گھسنا۔ ـ ه في/بين: کو کے درمیان یا میں بھینچنا، دبانا، ٹھونسنا، لپیٹنا۔ عِلمُ الحشرات: علم الحشرات، حشریات۔ حَشَرِيّ: حشرات کا، حشرات کے متعلق، کیڑے مکوڑوں کا یا ان سے متعلق، حشریاتی۔

○ حَشْرَجَ و تَحَشْرَجَ: گلے میں غرغرانا۔ حَشْرَجَة: غرغرانا، نزع کا غرغرہ۔

حشف: ۱۔ حَشَفَ ـِ حَشْفاً الضرعُ: پستان کا دودھ سے خشک ہوجانا۔ أَحْشَفَ ضرعُ الناقةِ: اونٹنی کے تھنوں کا سکڑنا، سمٹنا۔ اِسْتَحْشَفَ ضرعُ الأنثى: پستان کا سکڑنا، سمٹنا۔ ـ ت أُذُنُ الإنسان: کانوں کا خشک ہوکر سمٹ جانا۔ الحَشَف: خشک پستان۔

۲۔ حَشَّفَ عينَهُ: آنکھیں چندھیا کر دیکھنا۔

۳۔ أَحْشَفَتِ النخلةُ: کھجور کا خراب و ردی پھل لانا۔ الحَشَف: ردی کھجور یا خشک اور خراب کھجور۔ کہاجاتا ہے: أَحَشَفًا و سُوءَ كِيلَة: ایک تو کھجور ردی اور اوپر سے ناپ بھی کم۔ یہ ضرب المثل اُس وقت بولی جاتی ہے جب کسی میں دو بری خصلتیں بیک وقت جمع ہوں۔ الحَشَفَة جمع حِشَاف: خشک خمیر۔ (را): کھیتی کٹنے کے بعد بچے ہوئے دھانسے۔

۴۔ تَحَشَّفَ: پرانا بوسیدہ کپڑا پہننا۔ الحَشِيف: پرانا بوسیدہ کپڑا، لباس۔

۵۔ الحَشَفَة جمع حِشَاف: سمندر میں چھوٹا سا گول جزیرہ جس پر پانی نہ چڑھتا ہو۔

○ تَحَشَّفَ: پھٹے کپڑوں میں ملبوس ہونا، بے سلیقہ ملبوس ہونا۔ حَشَف: گھٹیا قسم کی کھجوریں۔ حَشَفَة: عضو تناسل۔

حشك: ۱۔ حَشَكَ ـِ حَشْكًا و حُشُوكًا الضرعُ: تھن کا دودھ سے بھر جانا۔ ـ ت الناقةُ لبنَها: اونٹنی کا دودھ اپنے تھنوں میں جمع کرنا صفت: حَشُوك۔ ـ الناقةَ: اونٹنی کا دودھ دوہنا بند کردینا کہ دودھ جمع ہوجائے صفت: مَحْشُوكَة۔ ـ تِ السحابةُ: بادل کا بہت پانی والا ہونا۔ ـــ الوادي: وادی کا پانی کو باہر پھینک دینا۔ ـ ت النخلةُ: کھجور کا بہت پھل لانا۔ صفت: حاشِك۔ ـــ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ حَشِكَ ـَ حَشَكًا اللبنُ في الضرع: تھن میں دودھ کا جلد جمع ہوجانا۔ تَحَشَّكَ الضرعُ: تھن کا دودھ سے بھرجانا۔ الحَشْكَة: بارش کی بوچھاڑ۔ الحَشَكَة: جماعت۔ کہاجاتا ہے: جاؤوا بحَشَكَتِهِم: وہ اپنی جماعت کے ساتھ آئے۔

۲۔ حَشِكَ ـَ حَشَكًا تِ الدابةُ: جانور کا جو وغیرہ چبانا۔ أَحْشَكَ الدابةَ: جانور کو جو وغیرہ کھلانا۔ الحَشِيكَة: جو وغیرہ جو جانور کھائے۔

۳۔ حَشَكَ ـ حَشْكًا و حُشُوكًا تِ الريحُ: ہوا کا مختلف اطراف سے چلنا۔ الرياحُ الحَوَاشِك واحد حاشكة: مختلف جہات سے چلنے والی ہوائیں۔

۴۔ الحُشَاكة و الحِشَاك: وہ لکڑی جو جانور کے بچہ کے منہ پر باندھی جاتی ہے تاکہ وہ دودھ نہ پی سکے۔

○ حَشَكَ ـ حَشْكًا ه في: کو میں کھچا کھچ یا لبالب [illegible]

حشل: حَشَلَ ـُ حَشْلاً الشيءَ: کو ذلیل کرنا، حقیر جاننا۔ الحَشْل: ذلیل و حقیر شے۔

حشم: ۱۔ حَشَمَ ـِ حَشْمًا و حَشَّمَ و اِحْتَشَمَ هُ: کو غضبناک کرنا۔ حَشِمَ ـَ حَشَمًا: غضبناک ہونا۔ ـ هُ حَشْمًا: کو غضبناک کرنا۔ حاشَمَ هُ: کو غضبناکی پر بھڑکانا، برانگیختہ کرنا۔ اِحْتَشَمَ منه: پر غضبناک ہونا۔ حَشَمُ الرجلِ: انسان کے وہ قرابت دار اور غلام یا پڑوسی جو اسکی خاطر دوسروں پر غضبناک ہوں یا وہ ان کی خاطر دوسروں پر خشمگین ہوں۔ اہل وعیال، قرابت، نوکر چاکر۔ الحِشْمَة: غیظ و غضب۔ الحُشْمَة: قرابت، ذمہ داری۔

۲۔ حَشَمَ ـِ حَشْمًا ه: کو ناپسندیدہ بات سنا کر دکھ پہنچانا۔ حَشَّمَ ه: کو تکلیف یا دکھ پہنچانا۔

۳۔ حَشَمَ ـِ حَشْمًا و حَشَّمَ هُ: کو شرمندہ کرنا۔ حَشِمَ ـَ حُشُومًا منه: سے منقبض ہونا۔ تَحَشَّمَ مِن فلانٍ: سے شرم و حیا کرنا، کی مذمت سے بچنا۔ اِحْتَشَمَ ه: کو شرمندہ کرنا۔ ـــ منه و عنه: سے شرم و حیا کرنا، منقبض ہونا۔ الحِشْمَة: حیا، ادب، شرم۔ الحُشْمَة: عورت۔ الحَشِيم جمع حُشَمَاء: شرمیلا، حیادار، بزدل، ڈرپوک، جھجکنے والا۔

۴۔ حَشَمَ ـِ حَشْمًا الشيءَ: تیز طلب کرنا۔ کہاجاتا ہے: ما حَشَمَ الصيدَ: اس نے شکار نہیں پایا۔ ما حَشَمَ من طعامِنا: اس نے ہمارا کھانا نہیں کھایا۔

۵۔ حَشِمَ ـَ حُشُومًا: تھک جانا، لاغری کے بعد آنا۔

○ حَشَمَ ـ حَشْمًا ه: کو شرمندہ کرنا، شرم دلانا۔ حَشَّمَ و أَحْشَمَ ه: بمعنی حَشَمَ ه۔ تَحَشَّمَ و اِحْتَشَمَ من يا عن: کا سامنا کرنے سے شرمندہ ہونا۔ ـــ: شرمیلا، حیادار، کم گو یا جھجکنے والا ہونا۔ حِشْمَة: شرم و حیا، شرمیلا پن، بزدلی، بے حوصلگی، انکساری، عزت، آبرو، تہذیب، شائستگی، سلیقہ، شعور آداب مجلس۔ مَحَاشِم: اعضاء تناسل۔ تَحَشُّم و احتشام: شرم و حیا، شرمیلا پن، حجاب، انکساری، غیرت، کم گوئی، شائستگی، تہذیب، عزت آبرو، آداب مجلس۔ محتشم: شرمیلا، حیادار، لجیلا، کم گو، آبرودار، باحیا، باسلیقہ، شائستہ، مہذب۔

حشن: ۱۔ حَشِنَ ـَ حَشَنًا السقاءُ: زیادہ دودھ رکھنے اور بار بار نہ دھونے کی وجہ سے مشک کا بدبودار ہو جانا۔ أَحْشَنَ السقاءَ: مشک کو بدبودار کر دینا۔ تَحَشَّنَ: میلا ہونا۔ الحَشَن (مص): دودھ کی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چکنائی کی وجہ سے پیدا ہونے والی میل کچیل۔ الحِشْنَةُ: کینہ۔

۲۔ حَاشَنَ هُ: آپس میں گالم گلوچ کرنا۔

حشا: ۱۔ حَشَا ـُ حَشْوًا الوسادةَ بالقطن: تکیہ میں روئی بھرنا۔ اِحْتَشَی اِحتشاءً: بھر جانا۔ کہا جاتا ہے: اِحْتَشَتِ الرمّانةُ بالحبّ: انار دانوں سے بھر گیا۔ اِحْتَشَی مِن الطعام: اس کا پیٹ کھانے سے بھر گیا۔ ـــ ت المرأةُ الحَشِيَّةَ و بها: عورت نے گدی کپڑا زیب تن کیا تاکہ موٹی نظر آئے۔ الحَشْو جمع المَحَاشِي (جو خلاف قیاس ہے)، بھرنے کی چیز یعنی جس سے کوئی چیز بھری جائے، بکری کے بچہ کے پیٹ میں بھرا جانے والا مسالہ، فضول کلام۔ الحَشَا جمع اَحْشَاء: پیٹ کی اندرونی چیزیں۔ الحِشْوَة و الحُشْوَة من البطن: انتڑیاں۔ الحَشَوِيّ: فضول کلام کرنے والا۔ المُحْتَشَى: پیٹ میں کھانے کی جگہ۔ المَحْشِيّ (ط): کسی کاغذ وغیرہ میں بھری ہوئی کھانے کی چیز (عام لوگوں کی زبان میں)۔ الحَشِيَّة جمع حَشَايَا: گدی کپڑا جس کو پہن کر عورت موٹی نظر آئے، بھرا ہوا بستر، گدا۔ المُحَشَّاة من البطن: امعاء مستقیم۔

۲۔ حَشَا ـُ حَشْوًا الرجلَ: کے حشا کو صدمہ پہنچانا۔ الحَشَا جمع اَحْشَاء (ع ا): جو کچھ پسلیوں کے اندر ہو۔ کہا جاتا ہے: انا فی حَشَا فلان: میں فلاں شخص کی پناہ میں ہوں۔ فلانٌ خیرهم حَشًا: ان لوگوں میں سے فلاں شخص بلحاظ حفاظت بہتر ہے۔

۳۔ حَاشَی هُ: کوئی تھوڑی چیز دینا۔

۴۔ الحَشْو: رذیل لوگ۔ ـــ و الحاشية من الناس والإبل: چھوٹے لوگ یا اونٹ جن میں بڑے لوگ یا اونٹ نہ ہوں۔ الحُشْوَة و الحِشْوَة: ردّی چیز۔ کہا جاتا ہے: هو من حُشْوَةِ بنی فلان: وہ بنو فلاں کے رذیل لوگوں میں سے ہے۔

○ حَشَا ـُ حَشْوًا ه ب: کو سے بھرنا، میں کسی چیز کو ٹھونسنا، پر کوئی چیز ڈالنا۔ ـ ه: (فارم وغیرہ) بھرنا (آتشین اسلحہ) لوڈ کرنا۔ ـــ ه ه: میں کیمرہ وغیرہ میں کوئی چیز (مثل فلم) لوڈ کرنا، ڈالنا۔ ـ ه: (دانت) بھرنا۔ ـــ ه: میں ڈالنا، داخل کرنا۔ حَشَّی ه: (کتاب وغیرہ میں بدنیتی سے الحاق کرنا یا لفظ بڑھانا، میں ڈالنا، داخل کرنا۔ ـــ ه: پر حاشیہ لگانا۔ ـــ ه: (لباس پر) گوٹ لگانا، (لباس کے کنارے) ترپنا۔ ـ ه: (کتاب) کے حاشیے لکھنا۔ حَاشَا ه من: کو سے مستثنی کرنا، خارج کرنا۔ تَحَشَّی من: سے دور رہنا، احتراز کرنا، علیحدہ رہنا۔ ـــ من: سے پہلوتہی کرنا، کنی کترانا، پہلو بچانا، بچنا، حذر کرنا، بچنے کی کوشش کرنا۔ تحاشَی من یا عن: سے دور رہنا، احتراز کرنا، باز رہنا، پرہیز کرنا۔ ـــ ه/من/عن: سے بچنا، پہلوتہی کرنا، پہلو بچانا، کنی کتراتا، بچنا، حذر کرنا۔ حَشْو: جس سے کوئی چیز بھری جائے یا جس میں کوئی چیز ٹھونسی جائے۔ مرغ وغیرہ پر سلاد، چٹنی وغیرہ ڈالنا یا مرغ وغیرہ میں مسالہ بھرنا، دانت بھرنا، ڈالی ہوئی چیز، اندراج، کتاب وغیرہ میں بدنیتی سے الحاق، زائد الفاظ، ملحقات، جملہ معترضہ۔ حَشْوَة جمع حشوات: تکیے وغیرہ بھرنا، کارتوس کا لوڈ کرنا، بارود وغیرہ کی مقدار (دھماکہ کرنے کے لئے)، جڑاؤ کام، زنانے لباس میں دوسرے قسم کا ٹنکا ہوا کپڑا، دروازہ میں لگا ہوا ٹکڑا۔ حَشًا جمع اَحْشَاء: انتڑیاں، اندر کا حصہ، اندرونی حصہ۔ فی اَحشاء: کے اندر، میں، کے اندرونی حصہ میں۔ حَشًّى بمعنی حَشًا۔ حَشِيَّة جمع حَشِيَّات و حَشَايَا: تکیہ، گدا، توشک۔ حاشا و حاشَى: (مضاف الیہ یا اسم منصوب یا لِ کے ساتھ) کے سوا، کے سوائے۔ حاشا للّٰه و حاشَى لِلّٰه: خدا نہ کرے۔ حاشاكَ أن: خدا نہ کرے کہ تم...... تَحْشِيَة: اندراج، شمولیت، الحاق، اضافہ، الحاقی عبارت، تحریف۔ تَحَاشٍ: کنارہ کشی، احتراز، بچاؤ، بچنا۔ حَاشِيَة جمع حَوَاشٍ: بارڈر، کنارہ، سیون، جوڑ، سنجاف، مغزی، گوٹ، جھالر، حاشیہ، کتاب کا حاشیہ، کتاب کے بعض الفاظ یا عبارتوں کی شرح، مزید تشریح، فٹ نوٹ، عبارت مابعد، خدم و حشم، حاشیہ نشین، نوکر چاکر جو کسی شخص کے جلو میں ہوں، خادمین، دست نگر لوگ، جمع حَوَاشٍ: تنقیدی مواد۔ رقیقُ الحاشية و رفیقُ الحواشی: مہذب، نازک طبع، نفاست پسند، باادب، خوش خلق، خلیق، نیک خو، مہربان، ملنسار، دوستی کا برتاؤ کرنے والا۔ رِقّةُ الحاشية: نفاست پسندی، خوش خلقی، ملنساری، رحیمی، کریمی۔ مَحْشُوّ: بھرا ہوا، ٹھونسا ہوا، ڈالا ہوا، لوڈ کیا ہوا (آتشین اسلحہ) جمع مَحْشُوات: بھری یا ٹھونسی ہوئی کھانے کی چیزیں۔ مُحَشِّيّ: بھرا یا ٹھونسا ہوا (کھانا)، بھری یا ٹھونسی ہوئی چیز۔

حصّ: ۱۔ حَصَّ ـُ حَصًّا الشعرَ: بال مونڈنا۔ ـ ـ [illegible] صفت: اَحَصّ، انحص، الشعر: [illegible] ت اللحيةُ: داڑھی کے بالوں کا ٹوٹا ہوا ہونا یا کم ہونا۔ الحَصَص: سر کے بالوں کی کمی، سر کے بالوں کا چھوٹا ہونا۔ الحَاصَّة (طب): بالوں کے گرنے کی بیماری۔ الأحَصّ مونث حَصّاء: وہ جس کے سر پر بال کم ہوں، وہ جس کے سینہ پر بال نہ ہوں۔ ـــ مِن الطيور: وہ پرندہ جس کے بازوؤں کے پر گر گئے ہوں۔ الحَصِص: گدھے یا اونٹ کے گرے ہوئے بال۔ الحُصَاص (طب): کھجلی۔ الحَصِيصَة: مونڈ کر یا اکھیڑ کر جمع کئے ہوئے بال، کان کے بال۔

۲۔ حَصَّ ـُ حَصًّا ه من المال كذا: مال میں سے کوئی حصہ والا ہونا۔ أحَصَّ ه: کو اس کا حصہ دینا۔ حَاصَّ مُحَاصَّةً الغُرماءَ: قرض خواہوں کا حصے تقسیم کر لینا، بانٹ لینا۔ تَحَاصَّ القومُ الشيءَ: لوگوں کا کسی چیز کے حصوں کا آپس میں تقسیم کر لینا۔ الحِصَّة جمع حِصَص: حصہ۔

۳۔ حَصَّ ـُ حَصًّا الشيءَ: کو گھٹانا، سے کاٹ لینا۔ اِنْحَصَّ الذَّنَبُ: دم کا کٹ جانا۔

۴۔ حَصَّ ـُ حَصًّا الجليدُ النبتَ: پالے کا سبزہ یا پودے کو جلا دینا۔ سَنَةٌ حَصَّاءُ: وہ خشک سال جس میں روئیدگی نہ پیدا ہو۔

۵۔ اَحَصَّ هُ المكانَ: کو کسی جگہ اتارنا۔

۶۔ حَصَّصَ الأمرُ: معاملہ کا ظاہر ہونا۔

۷۔ الحُصّ جمع حُصُوص و أحْصَاص: موتی (ن) زعفران، لیموں، تھوم وغیرہ کا علیحدہ ٹکڑا۔ (عام لوگوں کی زبان میں)۔ أحَصّ: يومٌ أحَصُّ: سخت سرد دن، جس میں بادل نہ ہوں۔ سیف أحَصّ: جوہر نہ رکھنے والی تلوار۔ الحُوَيص: تعداد۔ کہا جاتا ہے: حُوَيصُهم كذا: ان کی تعداد اتنی ہے۔ الحُصَاص: دوڑنے کی تیزی، گوز۔ الحُصاصة: انگور چن لینے کے بعد بیل میں جو کچھ بچ رہے۔

۸۔ حَصْحَصَ حَصْحَصَةً الحقُّ: پوشیدگی کے بعد حق کا ظاہر ہونا۔ ـــ الرجلُ: بیڑی پہنے قیدی کی طرح چلنا۔ ـــ الشيءَ في الشيءِ: کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں مضبوطی سے بٹھانے کے لئے ہلانا۔ ـــ التراب وغيرهُ: مٹی وغیرہ کو دائیں بائیں ہلانا۔ تَحَصْحَصَ: زمین سے چمٹنا، برابر ہونا۔ الوبرُ او الزئبرُ: اونٹ کے بالوں یا کپڑے کے روئیں کا نکا ہونا۔ الحُصْحُص و الحُصْحُوص من الناس: معاملات کو باریکی سے ٹٹول کر کے معلوم

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنے اوران پر قابو پانے والا۔ الحصحص: پتھر۔ ۔ والحَصْحَاص: مٹی۔

○ حَصَّ ۔ حَصًّا ہ: کا حصہ ہونا۔ حَاصَّ ہ ہ: کا کے ساتھ حصہ دار ہونا، حصہ لینا۔ أَحَصَّ ہ: کو اس کا حصہ دینا۔ حُصّ: زعفران۔ حِصَّة جمع حِصَص: حصہ، کوٹا، حصہ رسد، گروہ (لوگوں کا جو کسی اجتماع میں شریک ہوں اور مشترکہ خصوصیات کے حامل ہوں)، گروہ (فوجی دستوں کا جو ایک بڑی فوج کا حصہ ہو)، وقفہ، مدت، عرصہ، سبق، کلاس کا وقت، تقسیم مقررہ حصہ۔ حِصَّةٌ فی الرِبح: منافع جو وقتاً فوقتاً ادا ہو۔ حِصَّةُ التاسیس: بانیوں کا حصہ۔ نظامُ الحِصَص: کوٹا سسٹم، تقسیم حصص، بٹائی، حصہ داری۔ فی حِصَّةٍ وَجیزَةٍ: تھوڑے وقت میں۔ تَحْصِیص: کوٹا سسٹم، تقسیم حصص، بٹائی، حصہ داری۔ مُحَاصَّة: تقسیم، حصہ، بٹوارہ، مقررہ حصہ، کا حصہ دار ہونا، شریک ہونا، حصہ لینا، شرکت، اشتراک، شمولیت۔

حصا: حَصَأَ وحَصِئَ ۔ حَصْأً الرضیعُ: شیرخوار بچے کا پیٹ بھر دودھ پینا۔ ـــ من الماء: پانی سے سیراب ہونا۔ أَحْصَأَهُ: کو سیراب کرنا۔

حصب: ۱۔ حَصَبَ ۔ حَصْبًا هُ: کو کنکریاں مارنا۔ ـــ وحَصَّبَ المکانَ: کسی جگہ کنکریاں بچھانا اور اس سے فرش تیار کرنا۔ أَحْصَبَ الفرسُ فی عَدْوِہ: گھوڑے کا دوڑنے میں کنکریاں اُڑانا۔ تَحَاصَبُوا: ایک دوسرے پر کنکریاں پھینکنا۔ الحَصَب: پتھر، چھوٹی پتھریاں، کنکریاں، ایندھن۔ الحَصِبَة: کنکریوں کو اڑانے والی تند ہوا۔ ارضٌ حَصِبَة: بہت کنکریوں والی زمین۔ الحَصْبَاء واحد حَصَبَة: کنکریاں۔ الحَاصِب (فا): کنکریوں کو اڑانے والی تیز ہوا، اولہ، اولے برسانے والا بادل، المَحْصَبَة: بہت کنکریوں والی زمین۔

۲۔ حَصَبَ ۔ حَصْبًا فی الارض: زمین میں جانا۔ ـــ عنہ: کسی سے بھاگنے میں تیزی کرنا۔ ـ ہُ عن کذا: کو سے دُور کرنا۔ أَحْصَبَ ہُ عن کذا: کو سے دُور کرنا۔ ـــ عنہ: سے منہ پھیر کر چلے جانا۔ تَحَصَّبَ الحمامُ: کبوتر کا دانے کی تلاش میں صحرا کی طرف نکلنا۔

۳۔ حَصِبَ ۔ حَصَبًا و حُصِبَ: خسرہ کے مرض میں مبتلا ہونا صفت: مَحْصُوب۔ الحَصْبَة والحَصَبَة والحَصِبَة (طب): خسرہ۔

۴۔ حَصِبَ ۔ حَصَبًا و حُصِبَ الوترُ: تانت کا کمان سے اُلٹ جانا۔

○ حَصَبَ ۔ حَصْبًا ہ: زمین کو سنگریزوں، کنکریوں روڑوں یا روڑی یا بجری سے ڈھکنا یا زمین پر سنگریزے، کنکریاں، روڑے، روڑی یا بجری پھیلانا، (سڑک) کو کنکر اور پتھر سے پکا کرنا۔ حَصِبَ ۔ و حُصِبَ: خسرہ میں مبتلا ہونا، کو خسرہ نکلنا۔ حَصَّبَ ہ: زمین کو سنگریزوں، کنکر، روڑے، روڑی یا بجری سے ڈھکنا، زمین پر کنکروں کی سڑک بنانا، (سڑک) کو کنکر اور پتھر سے پختہ کرنا۔ حَصَب: سڑک کے پتھر، کنکر، روڑی، کنکر جو ریل کی سڑک پر ڈالے جائیں۔ حَصْبَاء: کنکر، سنگریزے، روڑے، روڑی، بجری۔ حَصْبَة: چھوٹی چیچک، خسرہ۔ حَاصِبَة: طوفانی آندھی، ہوا کا تیز جھکڑ، طوفان، طوفان بادوباراں، تیز ہوا، آندھی۔

حصد: ۱۔ حَصَدَ ۔ حَصْدًا وحِصَادًا و حَصَادًا و إِحْتَصَدَ الزرعَ: کھیتی کو درانتی سے کاٹنا۔ اسی سے یہ قول ہے: من زرعَ الشرَّ حَصَدَ الندامةَ: جس نے برائی بوئی اس نے ندامت کاٹی۔ صفت: حَاصِد جمع حَصَدَة وحُصَّاد۔ ـــ القومَ بالسیف: لوگوں کو تلوار سے قتل کرنا۔ أَحْصَدَ الزرعُ: کھیتی کی کٹائی کا وقت قریب آنا۔ اِسْتَحْصَدَ الزرعُ: کھیتی کے کاٹنے کا وقت قریب آپہنچنا۔ الحَصَد و الحَصِید و الحَصِیدَة جمع حَصَائِد: کھیتی کا کٹا ہوا حصہ۔ الحِصَاد (مص): کھیتی کاٹنے کا وقت یا موسم۔ الحَصَاد: کھیتی کاٹنے کا وقت یا موسم، کاٹی ہوئی کھیتی، کٹی ہوئی فصل۔ حَصَادُ الشَجَرة: درخت کا پھل۔ کہا جاتا ہے: اَخَذُوا حَصَادَ الشجرة: انہوں نے درخت کا پھل لیا۔ حَصَادُ البقولِ البرِّیَة: ہلنے سے جھڑ جانے والے دانے۔ الحَصَّاد: فصل کاٹنے والا۔ الحَصِیدَة جمع حَصَائِد: فصل کی جڑیں جو کاٹنے پر درانتی سے نیچے رہ جاتی ہیں کھیتی۔ ایّامُ الحصید و ایّام الحصیدة: فصل کی کٹائی کا موسم (عام لوگوں کی زبان میں)۔ حَصَائِدُ الألْسِنَة: دوسروں کے بارے میں کہی جانے والی باتیں۔ الأَحْصَد مونث حَصْدَاء: کھڑے ہی کھڑے سوکھ جانے والا پودا۔ المِحْصَد: درانتی۔

۲۔ حَصِدَ ۔ حَصَدًا الحبلُ او الدرعُ: رسی کا مضبوط بٹی ہوئی ہونا، کا مضبوط بنا ہوا زرہ۔ أَحْصَدَ الحبلَ: رسی بٹنا۔ اِسْتَحْصَدَ الحبلُ: رسی کا مضبوط بٹی ہوئی ہونا۔ کہا جاتا ہے: اِستحصد حَبْلُ [illegible] غضباً [illegible] القوم [illegible] لوگوں کا جتھا بننا۔ الأَحْصَد مونث حَصْدَاء: مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ دِرْعٌ حَصْدَاء: تنگ حلقوں والی مضبوط زرہ۔ شَجَرَةٌ حَصْدَاء: بہت پتوں والا درخت۔

○ حَصَدَ ۔ حَصْدًا و حَصَادًا ہ: فصل کاٹنا، گھاس وغیرہ کاٹنا۔ اَحْصَدَ واحْتَصَدَ و اِسْتَحْصَد: پکنا، پکا ہوا ہونا، تیار ہونا۔ حَصْد و حِصَاد: فصل کی کٹائی، فصل، کٹائی (کی ہوئی) فصل۔ حِصَاد: کٹائی کا وقت یا موسم۔ حَصِید وحَصِیدَة جمع حَصَائِد: فصل، فصل کی پیداوار، کٹائی۔ قائمٌ و حَصِید: ہر چیز، بلا استثناء۔ حَصَّاد: فصل کاٹنے والا۔ مِحْصَد جمع مَحَاصِد: درانتی۔ حَصَّادَة و مِحْصَدَة: گھاس فصل وغیرہ کاٹنے کی مشین۔ حَصَّادَة دَرّاسَة: فصل کاٹنے اور گاہنے کی مشین۔ حَاصِد: فصل کاٹنے والا۔ حَاصِدہ: گھاس یا فصل کاٹنے کی مشین۔ مَحْصُود: کٹی ہوئی فصل، گھاس۔ مُحْصِد و مُسْتَحْصِد: پکا، پکا ہوا۔

حصر: ۱۔ حَصَرَ ۔ حَصْراً ہُ: کو تنگ کرنا، گھیر لینا۔ ـــ الشیءَ: چیز کو سارا لے لینا۔ ـــ القومُ بفلانٍ: کو تنگ کرنا۔ حَصِرَ ۔ حَصَراً: گفتگو کرنے میں رکنا، بخیل ہونا۔ ـــ الرجلُ: کا دل تنگ ہونا، دل پر دباؤ محسوس کرنا۔ ـ بالسرِّ: راز یا بھید کو چھپانا۔ ـــ عن الشیءِ: کسی چیز کو شرم کر کے چھوڑ دینا، سے مراد تک پہنچنا کسی کے لئے مشکل یا ناممکن ہونا، صفت: حَصِر و حَصُور وحَصِیر۔ حُصِرَ: کو قبض ہونا، کا پیشاب رک جانا۔ حَاصَرَوا حِصاراً مُحَاصَرَةً العدوَّ: دشمن کا محاصرہ کرنا، دشمن سے امداد روک لینا۔ أَحْصَرَہُ عن السفرِ: کو سفر سے روکنا۔ ـــ ہُ المرضُ او البولُ: کو مرض یا پیشاب کا کچھ کرنے سے روک دینا۔ أُحْصِرَ: کو قبض ہونا۔ إِنْحَصَر: تنگ ہونا، محصور ہونا۔ الحُصْر و الحُصُر (طب): قبض۔ الحِصَار: محاصرہ کی جگہ۔ الحَصِیر جمع حُصُر و أَحْصِرَة: پہلو (کہا جاتا ہے: دابَّةٌ عریضةُ الحَصِیرَین: چوڑے پہلوؤں والا جانور)، شانے سے کمر تک کا گوشت، تنگ جگہ، قید خانہ، قیدی، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہنے والا بادشاہ، بوریا، چٹائی، ـ من المیاہ: پہاڑ کے جوف میں جمع شدہ پانی جس سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اسی سے حُصُر النفط: تیل کے ذخائر۔ الحَصِیرَة جمع حَصَائِر: بوریا، چٹائی، گھوڑے کے مونڈھے اور پہلو تک کا گوشت۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

٢۔ حَصَرَ ـ حَصْراً البعیرَ و اِحْتَصَرَ البعیرَ: اونٹ کی پیٹھ پر گدیلہ باندھنا۔ الحِصار: تکیہ کی مانند چیز جس کو اونٹ کی پیٹھ پر ڈال کر اس پر سواری لیتے ہیں۔ المِحْصَرة: گدیلا (اونٹ کا)۔

٣۔ الحَصِیر جمع حُصُر و اَحْصِرَة: راستہ، لوگوں وغیرہ کی صف یا قطار، مجلس۔ المُحْتَصِر: شیر۔

٤۔ حَصْرَمَ الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ ــــ القوسَ: کمان کو سختی سے کسنا۔ ــــ القِربةَ: مشک کو بھرنا۔ ــــ القلمَ: قلم کو تراشنا۔ تَحَصْرَمَ: بخیل اور تنگ دل ہونا۔ الحِصْرِم: سخت بخیل۔ ــــ واحد حِصْرِمَة: پہلا سبز اور کھٹا انگور یا عموماً کچا پھل۔ پستہ قد، (ہر چیز کا) گھٹیا۔

○ حَصَرَ ـ حَصْراً ہ: کو گھیرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیرے میں لینا، حلقے میں لینا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کرنا، کا احاطہ کرنا، کو ملفوف کرنا، (لفظ) کو قوسین کے اندر رکھنا۔ ــــ ہ/ہ: کی ناکہ بندی کرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیرنا، کا محاصرہ کرنا، کو نرغے میں لینا۔ ــــ ہ: کو روک رکھنا، باز رکھنا، حراست میں رکھنا، قید میں رکھنا، حد کے اندر رکھنا، کو گھیرنا، کو روکے رکھنا۔ ــــ ہ فی/ب: کو تنگ محدود رکھنا۔ ــــ ہ: کو مختصر لفظوں میں بیان کرنا، کو دسترس یا رسائی میں کم کرنا۔ ــــ ہ فی: کو کسی حد میں رکھنا، روکنا، کو میں محدود کرنا، کو عنوان یا سرخی کے تحت ترتیب دینا، جمع کرنا۔ ــــ ہ فی: کو فہرست میں درج کرنا۔ ــــ ہ: کو شمار کرنا، گننا، کی فہرست بنانا، کی فرد تیار کرنا، کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کو جوڑنا، ملانا، پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، کو محیط ہونا۔ حَصِرَ ـ حَصَراً: مشکل میں ہونا، گومگو کی حالت میں ہونا۔ حَاصَرَ ہ/ہ: کو گھیرے میں لینا، کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈال لینا، کو الگ رکھنا، تنہائی میں رکھنا، بند کرنا، منقطع کرنا، کی ناکہ بندی کرنا۔ ــــ ہ: کو روکنا، باز رکھنا، بٹھائے رکھنا، کے سدِ راہ ہونا، کو قابو میں رکھنا۔ اِنْحَصَرَ: مشکل میں ڈالا جانا، مصیبت میں مبتلا کیا جانا، قید میں ہونا، تنگ ہونا۔ ــــ فی/ب: تنگ محدود ہونا یا ہو جانا، اپنے کو تنگ محدود رکھنا۔ ــــ فی: چند لفظوں میں بیان ہونا، میں مرکوز ہونا۔ ــــ تحت حُکْمِہ: کی حکومت کے تحت متحد ہونا یا ہو جانا۔ ــــ فی: کی حالت میں لائے جانے کے قابل ہونا، میں قابل تحویل یا قابل تحویل ہونا، کی بنیاد پر یا کے بارے میں کہنے کے قابل یا قابل اظہار ہونا، پر مشتمل ہونا۔ حَصْر: گھیر لینا، محصور کر لینا، کے گرد حلقہ ڈالنا، باڑے میں لیجانا، باڑہ لگانا، احاطہ بندی کرنا، جملہ معترضہ کے طور پر داخل کرنا، قوسین کے اندر رکھنا، محاصرہ، محاصرہ کرنا، گھیرنا، ناکہ بندی کرنا، گھیرا ڈالنا، نرغے میں لینا، گرفتاری، قید، حراست، روک، مزاحمت، باز رکھنا، مانع ہونا، پابندی، دباؤ، ممانعت، حدود کے اندر رکھنا، تحدید، جانچ پڑتال، روک تھام، حد بندی، بندش، پابندی، قید و بند، تنگ ہونا یا کرنا، (بکھری ہوئی چیز کو) جمع کرنا، اکٹھا کرنا، تالیف، تدوین، گنتی، شمار، فہرست، بنانا، فرد تیار کرنا، شمار کرنا، حساب لگانا، گننا، خود کو مرکز کے تحت لانا، مرکزیت پیدا کرنا، ارتکاز، ایک مرکز پر جمع ہونا، (تمباکو کی) اجارہ داری۔ بالحَصْر: ٹھیک بات تو یہ ہے، درحقیقت، لگی لپٹی رکھے بغیر۔ علی سبیل الحصر: مکمل طور پر۔ حصر التموین: راشن بندی، راشن مقرر کرنا، راتب مقرر کرنا، حصہ رسدی مقرر کرنا۔ علامة الحصر: قوسین، واوین، جملہ معترضہ کی علامت۔ لا یدخل تحت الحصر یا لا حَصْرَ له یا یفوقُ الحصرَ: بے حد، بے انت، بے انتہاء، بے پایاں، بے شمار، لامحدود، بے شمار، بے نہایت، بے اندازہ، بے قیاس، عقل و ادراک سے بالاتر۔ اجازة الحصر: کسی ایجاد پر سرکاری حکم سے موجد کو چند سال کے لئے ملنے والے جملہ حقوق patent on an invention۔ ادارة حصر التبغ و التنباك: تمباکو پر حکومت کی اجارہ داری۔ حُصْر: پیشاب کی بندش، قبض۔ حَصَر: موثر طور پر اظہار خیال سے معذوری۔ حَصِیر: بوریا، چٹائی جمع حُصُر۔ حَصِیرَة جمع حَصَائِر: چٹائی، بوریا۔ حِصَار: ناکہ، محاصرہ، راستہ روکنا، ناکہ بندی۔ مُحَاصَرَة: روکنا، راستہ روکنا، محاصرہ، ناکہ۔ اِنحِصار: پابندی، حد بندی، قید، بندش، قید و بند، (تمباکو کی) اجارہ داری۔ مَحْصُور: روکا ہوا، رکاوٹ ڈالا ہوا، محاصرہ کیا ہوا، ــــ فی: تنگ محدود۔

○ حِصْرِم: کچے اور کھٹے (انگور)۔ واحد حِصْرِمَة۔

حصف: ١۔ حَصُفَ ـ حَصَافَةً: عمدہ رائے اور پختہ سمجھ والا ہونا، صفت: حَصِف و حَصِیف۔ اَحْصَفَ الامرَ: کام کو مضبوطی اور مہارت سے کرنا۔ ــــ النسیجَ: مضبوط بننا۔ اِسْتَحْصَفَ الشیءُ: مضبوط ہونا۔ ــــ الحبلُ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ ــــ الدهرُ علیه: پر زمانہ کا سخت ہونا۔ الحَصِیف: ہر مضبوط شے جس میں کوئی خلل نہ ہو۔

٢۔ حَصِفَ ـ حَصَفاً: [illegible] خشک کھجلی [illegible]

الحَصَف (طب): خشک کھجلی، خشک خارش۔

٣۔ حَصَفَ ـ حَصْفاً ہ: کو دور کرنا۔ اَحْصَفَہ: کو دور کرنا۔

٤۔ اَحْصَفَ: تیز دوڑنا۔ صفت: مُحْصِف و مِحْصَف و مِحْصَاف۔

٥۔ اِسْتَحْصَفَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔

○ حَصُفَ ـ حَصَافَةً: دانشمندانہ رائے والا ہونا، معاملہ فہم ہونا، مدبر ہونا، ذی شعور ہونا، صاحب تمیز ہونا۔ حَصِف: دانشمندانہ رائے والا، معاملہ فہم، مدبر، ذی شعور، صاحب تمیز۔ حَصَافَة: دانشمندانہ رائے، معاملہ فہمی، تدبر۔

حصل: ١۔ حَصَلَ ـ حُصُولاً و مَحْصُولاً الشيءُ: حاصل ہونا، ثابت ہونا، باقی رہنا۔ کہا جاتا ہے: حصل علیه من حَقِّي کذا: اس پر میرا اتنا حق باقی رہا۔ ــــ لي علیك کذا: میرا اتنا تجھ پر ثابت ہوا یا واجب ہوا۔ تَحَصَّلَ الشيءُ: ثابت ہونا۔ الحاصِل جمع حَوَاصِل: صاف چاندی۔ ــ من کل شيءٍ: ہر شے کا بقیہ۔ (ع ح) حاصل ضرب (حساب میں)۔ الحَصَل و الحُصَالَة (ز): کھلیان سے غلہ اٹھا لینے کے بعد رہ جانے والے دانے۔ التَّحْصِیل: حاصل کیا ہوا مال۔ الحَصِیلَة جمع حَصَائِل: بقیہ۔

٢۔ حَصَلَ ـ حُصُولاً و مَحْصُولاً له کذا: کیلئے کچھ واقع ہونا۔

٣۔ حَصَلَ ـ حُصُولاً و مَحْصُولاً عنده کذا: کے پاس کچھ پایا جانا۔ ــــ علی الشيءِ: کو جمع کرنا، حاصل کرنا، اس کا مالک ہونا۔ حَصَّلَ الشيءَ او العلمَ: چیز یا علم حاصل کرنا۔ ــــ الکلامَ: تقریر یا کلام کا خلاصہ کرنا۔ ــــ الدَّیْنَ: قرض جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تَحَصَّلَ مِن المسئلة کذا: کسی مسئلہ سے دوسرا مسئلہ نکالا جانا۔ تَحَصَّلَ الشيءُ: اکٹھا ہونا۔ الحاصِل جمع حَوَاصِل (فا): مخزن۔ اسی سے ہے: حاصِلُ عینِ الماء: پانی کی ٹنکی یا حوض۔ الحَصِیلة جمع حَصَائِل: تحصیل کا اسم۔ حاصل کردہ چیز۔ کہا جاتا ہے: ما حَصِیلَتُكَ و ما حَصَائِلُكَ؟ تمہارا حاصل کیا ہوا کیا ہے؟ المَحْصُول: حاصل (کہا جاتا ہے: هذا محصولُ کلامِه: یہ اس کے کلام کا مفہوم و معنی ہے۔ ما لفلان محصولٌ و لا معقولٌ: فلاں شخص کی نہ کوئی رائے ہے اور نہ ہی تمیز) فائدہ، نفع، پیداوار۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۴۔ حَصِلَ ۔ حَصَلاً تِ الدابَّةُ: جانور کا مٹی یا کنکر کھانے سے پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا۔ ۔ الفرسُ: نباتات کی مٹی کھانے سے گھوڑے کا پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا۔ الحَصِل (ن): ایک قسم کی نباتات۔

۵۔ حَصَّلَ و أَحْصَلَ النخلُ: کھجور کا نیم پختہ پھل والا ہونا۔ الحَصَل واحد حَصَلَة: نیم پختہ کھجور، کھجور کا سبز رسدار پھل جو گر کر بکھر جائے۔

○ حَصَلَ ۔ حُصُولاً: شروع ہونا، موجود ہونا، ابتک موجود ہونا، واقع ہونا، پیدا ہونا، سامنے آنا، ظہور میں آنا، نتیجہ ہونا، ظاہر ہونا، پیش ہونا، درپیش ہونا۔ ۔ ل: کو پیش آنا، کو خیال آنا، سے اتفاقاً دوچار ہونا، یا کو اچانک پانا، کو اچانک آلینا، ـــ من: سے نکلنا، وجود میں آنا، مشتق ہونا، ـــ علی: کو حاصل کرنا، جیتنا، پر قابض ہونا، پرمٹ، پروانہ، اجازت مانگنا، چاہنا، پرمٹ، پروانے یا اجازت کے لئے درخواست دینا، (قرض) جمع کرنا، واپس لینا، وصول کرنا، کی واپسی کا حکم دینا یا کی واپسی کی درخواست کرنا۔ حَصَّلَ ہ: کے واقع ہونے یا شروع ہونے کا باعث ہونا، کو حاصل کرنا، نتیجہ پر پہنچنا، حقائق تک پہنچنا، (فیس، کرایہ) وغیرہ جمع کرنا، (ٹیکس فیس وغیرہ) لگانا، عائد کرنا، روپیہ پیسہ کی واپسی کا مطالبہ کرنا، کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا۔ تَحَصَّلَ من: کے نتیجہ میں واقع ہونا، کی مقدار کا ہونا۔ ۔: حاصل ہونا، مطلوب ہونا، عائد ہونا، لگنا، مطالبہ کیا جانا، فیس ٹیکس وغیرہ کا دستیاب ہونا، ٹیکسوں کا جمع ہونا، ـــ علی: کو حاصل کرنا، وصول کرنا، (فیس) کو اکٹھا کرنا۔ اِسْتَحْصَلَ علی: کو حاصل کرنا، وصول کرنا۔ حُصُول: آغاز، شروع، وقوع، واقعہ، حادثہ، ماجرا۔ ـــ علی: کا حصول، اکتساب، یافت، کو پالینا، کی تکمیل، تحصیل۔ حَصِیلة جمع حَصائِل: بقیہ، جمع شدہ رقم، نفع، منافع، آمدنی، مالیہ، وصولی (جمع وصولیاں)، پیداوار، کل آمدنی، مجموعی یافت۔ حَصَالَة: چندہ، خیرات جمع کرنے کا صندوق۔ تحصیل جمع تحصیلات: حصول، یافت، اکتساب، نفع، فائدہ، حصولِ (علم)، مطالعہ، علمی مطالعات، (مالیاتی وسائل، ٹیکسز کو) اکٹھا کرنا، فراہم کرنا، جبرا وصول کرنا، لگانا، عائد کرنا، آمدنی، مالیہ، وصولی (جمع وصولیاں) منافع، آمدنی، (تقریر رائے وغیرہ کا) خلاصہ، ملخص، اہم نکات، ماحصل۔ تحصیل الحاصل ان یقال: مختصراً یہ کہ، یہ کہا جا سکتا ہے کہ...... تحصیلجی: محصل، کلکٹر، ٹیکس کلکٹر، خزانچی، بس کنڈکٹر۔ حاصِل جمع حواصل: آغاز، شروع، وقوع، واقع ہونا، نتیجہ، میزان، رقم، حاصل ضرب، مالیہ آمدنی، وصولیاں، نفع، فائدہ، فصل، گودام، کوٹھی (اناج کی)، مال خانہ، مخزن، اسلحہ خانہ، تقریر وغیرہ، اہم مضمون، مفہوم، منشا، اہم نکات، ماحصل، ملخص، روح، لب لباب۔ محصول جمع محصولات و محاصیل: نتیجہ، پیداوار، فصل۔ مُحَصِّل: دیکھو تحصیلجی۔ مُتَحَصِّل من: سے پیداوار، وصولیاں، مالیہ، منافع، آمدنی۔

حصن: ا۔ حَصُنَ ۔ حَصَانَةً: محفوظ ہونا، صفت: حَصِین۔ حَصَنَ ۔ حَصْنًا ہُ: کو محفوظ جگہ میں رکھنا۔ حَصَّنَ و أَحْصَنَ المکانَ: کسی جگہ کو ناقابل تسخیر بنانا۔ تَحَصَّنَ: اپنے لئے قلعہ بنانا۔ ۔ الفرسُ: گھوڑے کا اصیل ہونا۔ الحِصْن جمع حُصُون و أَحْصَان و حِصَنه (ا ع): محفوظ و مضبوط جگہ، ہتھیار۔ ابُو الحُصَین (بصورت تصغیر): لومڑی۔ الحِصَان جمع أَحْصِنَة و حُصُن: اصیل گھوڑا، نر گھوڑا۔ الحَصِین من الاماکن: مضبوط جگہ۔ دِرْعٌ حَصِین: مضبوط زرہ۔ کہا جاتا ہے: حِصْنٌ حَصِینٌ: مضبوط قلعہ۔ المِحْصَن: محل، تالا، قفل۔ الحَصَانَة: قوت، طاقت، مستحکم ہونا، ناقابل تسخیر ہونا، متعدی بیماریوں سے مامون ہونا۔ الحَصَانة النیابیة: غیر ممالک میں سفارت کاروں کا امتیازی حق جس کی بنا پر انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان سے کوئی ٹیکس لیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

۲۔ حَصُنَ ۔ حُصْنًا وحِصْنًا وحَصَانَةً ت المرأةُ: عورت کا پاکدامن ہونا۔ صفت حَصَان جمع حُصُن و حَصَانات و حَاصِن و حَاصِنَة جمع حَوَاصِن و حَاصِنات و حَصْناء، أَحْصَنَ ت المرأةُ: پاکدامن ہونا، شادی شدہ ہونا۔ صفت: مُحْصَنَہ، أَحْصَنَ الرجلُ: شادی شدہ ہونا صفت: مُحْصَن: ۔ المرأةَ: کسی عورت سے شادی کرنا۔ تَحَصَّنَ ت المرأةُ: عورت کا پاکدامن ہونا۔

۳۔ الحَصَان: موتی۔ المِحْصَن: زنبیل۔

○ حَصُنَ ۔ حَصَانَةً: ناقابل رسائی ہونا، اچھی طرح قلعہ بند ہونا، مستحکم ہونا، عورت کا پاکدامن ہونا۔ حَصَّنَ ہ: کو ناقابل رسائی بنانا، کو مضبوط کرنا، کو قلعہ بند کرنا، مستحکم کرنا، کو خندق سے محفوظ کر لینا۔ ۔ ضِدَّ: سے محفوظ کرنا، بچا دینا، مستثنی کرنا، بے خوف کر دینا۔ أَحْصَنَ ہ: کو ناقابل رسائی بنانا، کو قلعہ بند کرنا، [illegible] پاکدامن رہنا، بے داغ شہرت والی ہونا۔ تَحَصَّنَ: اپنی جگہ کو مستحکم کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا، قلعہ بند ہونا، محفوظ ہونا، مامون ہونا۔ حِصْن جمع حُصُون: قلعہ، قلعہ بند شہر، محل، بالا حصار، پناہ گاہ، گڑھی، گڑھ، مضبوط مرکز، حصار، قلعہ بندی، شہر کے اردگرد کی خندقوں کے ذریعہ حفاظت، حفاظت۔ حِصَان جمع حُصُن و أَحْصِنَة: گھوڑا، نسل کشی والا گھوڑا، نر اسپ۔ حِصَانُ البحر: دریائی گھوڑا۔ حصان کاری: آہنی گھوڑا حِصَان یا قوۃ حِصان: ہارس پاور۔ حَصِین: ناقابل رسائی، مضبوط، سخت قلعہ بند، محفوظ، مامون، ـــ ضِدّ: سے محفوظ، جس کو زخم یا ضرر نہ پہنچایا جا سکے، بچا ہوا، کا شکار نہ ہونے والا، کا اثر قبول نہ کرنے والا۔ الحِصْنُ الحَصِین: (انقلابی سیاست کا) گڑھ، مضبوط مرکز۔ ابو الحُصَین: لومڑی۔ حِصَانة: قوت، طاقت، کرختی، ممانعت، قدغن، استحکام، ناقابل تسخیر ہونا، پہنچ سے باہر ہونا، (عورت کی) پاکدامنی، سفارت کاروں، نمائندوں وغیرہ (کی بیماری وغیرہ سے) حفاظت۔ اِحْصَان: بے داغ شہرت، بے قصوری، بے گناہی، دیانت، دیانتداری، ایمانداری۔ مُحَصَّن: قلعہ بند، خندق سے محفوظ کیا ہوا (شہر)۔ ـــ ضد: سے محفوظ، بچا ہوا، مستثنی۔ مُحْصَنَة: پاکدامن، بے داغ شہرت والی عورت۔

حصا: حَصَا ۔ حَصْوًا ہُ: کو روکنا، منع کرنا۔

حصی: ا۔ حَصَی ۔ حَصْیًا الرجلَ: کو کنکری سے مارنا۔ حَصِیَ ۔ حَصًّا تِ الارضُ: زمین کا بہت کنکری والا ہونا، صفت: مَحْصَاۃ۔ حُصِیَ (طب): کے مثانہ میں پتھری پیدا ہو جانا، صفت: مَحْصِیّ۔ الحَصَی واحد حَصَاۃ جمع حَصَیات وحُصِیّ و حِصِیّ: کنکریاں، پتھریاں۔ طَرْقُ الحَصَی: جادو میں کہانت کا ایک عمل، الحَصَاۃ (طب): مثانہ کی پتھری۔ ارضٌ حَصِیَّةٌ: بہت کنکریوں والی زمین۔ نَهْرٌ حَصَوِیّ: بہت کنکریوں والی ندی، نہر۔

۲۔ حَصَّی تَحْصِیَةً ہُ: کو بچانا۔ تَحَصَّی: بچنا۔

۳۔ أَحْصَی الشیءَ: کو شمار کرنا، گننا۔ کہا جاتا ہے: هذا امرٌ لا أُحْصِیه: یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی مجھے طاقت نہیں۔ الحَصَاۃ: عدد، عقل، رائے۔ الحَصِیّ: بڑا عقلمند، الإحْصاء: مردم شماری۔

○ أَحْصَی ہ من: کو سے شمار کرنا، کا سے حساب کرنا، لگانا۔ ـــ ہ علی: کو کے بارے میں گھٹیا رائے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رکھنے دینا یا کے مخالف احساس دلانا۔ لَایُحْصَی: ان گنت، بے شمار۔ حَصَاۃ و حَصْوَۃ جمع حَصَیات: پتھری، کنکری، (مثانہ وغیرہ کی) پتھری۔ حصاۃ لُؤلُیَۃ: مثانے کی پتھری۔ حصاۃ صفراویۃ: پتے کی پتھری، سنگ مثانہ۔ حَصَی لُبان و حصالبان: ایک قسم کی سدابہار جھاڑی جس کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں۔ حَصَوِی: پتھرکا، پتھری کے متعلق، کنکریوں، سنگریزوں کا یا ان کے متعلق۔ اِحصاء جمع اِحصاء: شمار، شمار کرنا، گنتی، اعداد و شمار۔ اِحصاء السُّکّان: مردم شماری۔ اِحْصَائِی: اعداد و شمار کے متعلق جمع احصائیون: اعداد و شمار کا ماہر۔ اِحْصَائِیَۃ جمع احصائیات: اعداد و شمار (statisitics)۔

حضّ: ا۔ حَضَّ ۔ حَضًّا و حَضَّضَ ہُ علی الامر: کو کسی کام پر اکسانا، کو ترغیب دینا۔ تَحَاضَّ القومُ: ایک دوسرے کو اکسانا۔ اِحْتَضَّ نفسَہُ: خود سے زیادتی کا طالب ہونا۔ الحُضُّ و الحَضِیض و الحُضَّیضی: حض کا مصدری اسم۔

۲۔ الحَضَض: چیز (اس لفظ کا استعمال نفی کے بعد ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: ما عنده لا حَضَض ولا بَضَض: اس کے پاس کچھ نہیں۔ الحُضّی: دامن کوہ میں ملنے والا پتھر۔ الحَضِیض جمع اَحِضَّۃ و حُضُض: دامن کوہ (فک) اوج کے مقابل نقطہ۔ الحَضِیضَۃ: مملوکہ شئے۔ آپ کہتے ہیں: اُخْرِجْتُ الیه حَضِیضَتی و بضیضتی: جو کچھ میری ملک میں تھا وہ سب میں نے نکال کر اس کے لئے رکھ دیا۔ الحَضُوضَی: دوری، آگے۔

۳۔ حَضَّ ۔ حَضًّا و حَضَّضَ ہ علی: کو پرا کسانا، کو کبھی مہمیز دینا، کو کچھ کرنے پر اکسانا۔ حَضّ: اکسانا، ابھارنا، اشتعال دلانا، ترغیب، تحریص، لالچ، آمادہ کرنا، انگیخت، شہ دینا، ابھارنا، تحریک دینا۔ حضیض و حُضُض و اَحِضَّۃ: دامن کوہ، نشیبی علاقہ، چاند کا وہ نقطہ جو زمین سے قریب تر ہو، گہرائی، بوسیدگی، تنزل کی حالت۔ نزل اِلی الحضیض: نیچے گرنا (مجازاً)۔ دَکَّہُ اِلی الحضیض: کو مکمل طور پر تباہ کر دینا۔

حضب: ا۔ حَضَبَ ۔ حَضْبًا و اَحْضَبَ النارَ: آگ میں ایندھن ڈالنا، لکڑیاں ڈالنا۔ الحَضَب و الحِضْب: لکڑی، ایندھن۔ المِحْضَب: کریلنی، آگ ہلانے کی لکڑی۔

۲۔ تَحَضَّبَ: ناہموار اور قریب ترین راستہ اختیار کرنا۔

۳۔ الحُضْب و الحِضْب جمع اَحْضَاب: کمان کی آواز، دامن کوہ، پہاڑ کا پہلو۔

حضج: ا۔ حَضَجَ ۔ حَضْجًا النارَ: آگ جلانا۔ اِنْحَضَجَ الرجلُ: غصہ سے آگ بگولا ہونا۔ المِحْضَج: آگ ہلانے کی لکڑی۔

۲۔ حَضَجَ ۔ حَضْجًا بفلانٍ: کو پچھاڑنا۔ — بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔ — الشیءَ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا۔ المِحْضَاج: کپڑے دھونے کی موگری۔

۳۔ حَضَّجَ الکلامَ: گفتگو میں کوتاہی کرنا۔

۴۔ اِنْحَضَجَ: کشادہ پیٹ والا ہونا۔ الحُضَاج: جھکی ہوئی پیٹھ اور نکلے ہوئے پیٹ والا۔ الحِضَاج: بھری ہوئی بڑی مشک۔ المِحْضَاج من النساء: چوڑے پیٹ والی عورت۔

حضر: ا۔ حَضَرَ ۔ حُضُورًا و حَضَارَۃً: حاضر ہونا، موجود ہونا۔ حَضَرَ ۔ حُضُورًا المجلسَ: مجلس میں حاضر ہونا۔ کہا جاتا ہے: حضرتُ الامرَ بخیر: میں نے معاملہ میں ایک صحیح رائے کا خیال کیا۔ — ہُ: کو حاضر کرنا۔ حَضِرَ ۔ حُضُورًا المجلسَ: مجلس میں حاضر ہونا۔ حَضَّرَ و اَحْضَرَہُ: کو حاضر کرنا۔ حَاضَرَ مُحَاضَرَۃً و حِضَارًا ہُ: کو ترت سوچا ہوا جواب دینا۔ — الجوابَ: حاضر جواب ہونا۔ تَحَضَّرَ و اِحْتَضَرَ: حاضر ہونا۔ — الرجلَ: کو حاضر کرنا۔ اِسْتَحْضَرَ الشیءَ: کو حاضر کرنا۔ الحَضَر و الحَضْرَۃ: حاضری، موجودگی، حاضر ہونے کی جگہ، نزدیکی (کہا جاتا ہے: کنتُ بحضرۃ الدار: میں گھر کے نزدیک تھا)، پہلو، صحن۔ الحَضُر: حاضر جواب، صاحب بیان۔ الحَظِر: لوگوں کے وقت کی تاک میں رہنے والا اور وقت پر آموجود ہونے والا، طفیلی آدمی۔ الحَضْرَۃ: موجودگی۔ کہا جاتا ہے: کلّمتہ بحضرۃ فلانٍ: میں نے فلاں شخص کی موجودگی میں اس سے بات کی۔ حضرۃ کا لفظ اس ذی مرتبہ آدمی کے لئے مستعمل ہوتا ہے جو مرجع خلائق ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے: الحَضْرَۃُ العالیۃ تأمر بکذا: حضرت عالی ایسا حکم دیتے ہیں۔ الحُضْرَۃ و الحِضْرَۃ و الحَضَرَۃ: حاضری کی حالت (کہا جاتا ہے: فلانٌ حسنُ الحضرۃ: فلاں شخص کی حاضری بھلائی کی حاضری ہے)، نزدیکی، پہلو، صحن۔ الحاضرۃ جمع حواضر … المحضر جمع المحاضر … کہا جاتا ہے: … حاضری

حسن المَحضر: فلاں شخص غیر حاضر شخص کو اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے)، لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ (کہا جاتا ہے: کان ذلک بمَحْضَرٍ من فلانٍ: یہ فلاں شخص کی موجودگی میں ہوا)، حاضریں، حاضر ہونے والے لوگ۔ مَحْضَرُ الضبط (عدالتوں کی اصطلاح میں) واقعاتی معلومات کی دستاویز۔ المَحْضُور (مفع): بہت خراب ہونے والا۔ بہت آفت والا، کہا جاتا ہے: لبنٌ محضورٌ: بہت خراب ہونے والا دودھ، بہت آفت والا دودھ۔ المُحْتَضَر: بہت آفت والا، کہتے ہیں: اللبنُ مُحْتَضَرٌ فغطِّ اِناءَک: دودھ کے لئے بہت آفت ہے، اس لئے اپنے برتن کو چھپاؤ۔

۲۔ حَضَرَ ۔ حُضُورًا و حَضَارَۃً الوقتُ: وقت کا آنا۔ کہا جاتا ہے: حضرتِ الصلاۃُ: نماز کا وقت آگیا۔ — ہُ الموتُ: کو موت آجانا۔ — ہ الامرُ: کے دل میں کوئی بات آنا۔ — الیه: کے پاس آنا۔ حَضَّرَ و حَضَرَ و اَحْضَرَہُ الشیءَ: کے پاس کوئی چیز حاضر کرنا، کے پاس کوئی چیز لانا۔ حُضِرَ: کو موت آنا، صفت: مَحْضُور۔ تحضرہُ الهمُّ: کو غم لاحق ہونا۔ اُحْتُضِرَ: کو موت آنا، قریب المرگ ہونا۔ اِسْتَحْضَرَ الشیءَ: کی حاضری چاہنا، کو طلب کرنا، منگوانا۔ المُحْتَضَر: قریب المرگ۔

۳۔ حَضَرَ ۔ و حَضِرَ ۔ حُضُورًا عن المکان: کسی جگہ سے غائب ہونا۔

۴۔ حَضَرَ ۔ حَضَارَۃً: شہر میں رہنا۔ تَحَضَّرَ البلویُّ: شہری کی طرح بننا۔ الحَضَر: شہر آباد مقامات۔ اس کے مقابل البَدْو و البَدَاوۃ اور البادیۃ کہا جاتا ہے: هذا من کلام الحاضرۃ و لم اَرَ البوادی لفظوا به ولا عرفوه: یہ شہریوں کا کلام ہے۔ اہل بادیہ نہ اس کو بولتے ہیں اور نہ اس کو جانتے ہیں۔ الحَضِر: سفر کا ارادہ نہ رکھنے والا یا سفر کی استطاعت نہ رکھنے والا۔ الحاضِر (فا) جمع حُضَّر و حُضَّار و حُضُور و حَضَرَۃ: شہر کا رہنے والا، بڑا قبیلہ۔ یہ جمع ہے جس طرح حاج حاجیوں کے لئے آتا ہے۔ الحَضَارۃ: شہری و دیہاتی علاقہ۔ — والحِضَارَۃ: شہروں اور دیہاتوں میں سکونت، تمدن، تہذیب، کلچر۔ الحَضَرِی: شہری، دیہاتی۔ الحاضِرَۃ: شہر، آبادیاں، مقامات۔ — جمع حواضر: بڑا شہر۔ ہم کہتے ہیں: حاضرۃ الفاتیکان: روم میں پاپائے اعظم کے رہنے کی عمارتوں کے مجموعہ کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شہر یا رومن کیتھولک گرجا کے انتظامی مرکز کا شہر۔ الحَضِیرَۃ جمع حَضَائِر و حَضِیر: لوگوں کی جماعت۔ بعض کے نزدیک اصل میں اس لفظ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو پانیوں پر آکر مستقل طور پر قیام پذیر ہو جائیں۔ المُحْتَضِر: شہری، شہر میں آنے والا۔

۵۔ حَاضَرَ مُحَاضَرَۃً و حِضَاراً ہٗ: سے مقابلہ کرنا، کے ساتھ دوڑنا۔ أَحْضَرَ الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ إِحْتَضَرَ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔ إِسْتَحْضَرَ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑانا۔ الحُضْر: گھوڑے کی تیز دوڑ۔ المِحْضَار و المِحْضِیر جمع مَحَاضِیر من الخیل و غیرها: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا وغیرہ۔

۶۔ حَاضَرَ: لیکچر دینا۔ المُحَاضَرَۃ: لیکچر۔

۷۔ جَمَعَ الحَضَرَۃَ: تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مکان بنانے کا ارادہ کرنا۔ الحَاضِرَۃ جمع حَوَاضِر: ہاتھی کا کان۔ المَحْضَر جمع مَحَاضِر: رجسٹر، طومار، سجل۔ الحَضِیرَۃ جمع حَضَائِر و حَضِیر: کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ، زخم کا مواد جیسے پیپ، مقدمۃ الجیش (ا ع)، فوجیوں کا ٹولا۔

۸۔ حَضْرَمَ لِحاءَ الشجر: درخت کی چھال اُتارنا۔ ـــ القوسَ: کمان کو مضبوط کسنا۔ ـــ فی الکلام: کلام کے اعراب یا لفظوں کی حرکات میں غلطی کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو ملانا، خلط ملط کرنا، لکنت والا ہونا۔ المُحَضْرَم: وہ مسلمان یا شاعر جس نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں پائے ہوں۔ الحَضْرَمِیَّۃ: کلام میں لکنت، حضرموت کی طرف منسوب۔

○ حَضَرَ ـُ حُضُوراً ہٗ: کسی جگہ حاضر ہونا۔ ـــ ہٗ: کے پاس موجود ہونا۔ ـــ ہٗ: میں جانا، حاضر ہونا۔ ـــ ہٗ: کے ذہن میں موجود ہونا۔ ـــ ہٗ: کو بآسانی یاد کرنا۔ ـــ مجلساً: اجلاس میں حصہ لینا، شرکت کرنا۔ ـــ ہٗ/ ہٗ/الی: کے پاس آنا، پہنچنا۔ ـــ ہٗ/الی: کسی جگہ پہنچنا۔ ـــ ہٗ: کسی جگہ جانا، کسی عوامی کھیل، واقعہ میں حاضر ہونا، کسی کرتب وغیرہ میں جانا۔ ـــ امامَ...... إلی: کسی جج کے سامنے کسی جگہ پیش ہونا۔ ـــ إلی: میں جانا۔ ـــ من إلی: سے تک جانا۔ ـــ حضارۃً: کسی متمدن علاقہ میں رہنے لگنا، آباد ہونا۔ حَضَّرَ ہٗ: کو تیار کرنا (نیز دوا تیار کرنا)۔ ـــ: کو بنانا۔ ـــ ہٗ: (سبق) پڑھنا، تیار کرنا۔ ـــ ہٗ/ہٗ: کولانا۔ ـــ ہٗ: کو مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ ـــ ہٗ: کو آباد کرنا، بٹھانا۔ ـــ ہٗ/ہٗ: کو مہذب بنانا، متمدن بنانا۔ حَاضَرَ ہٗ: کو لیکچر دینا، کو لیکچر میں کچھ پیش کرنا۔ ـــ: لیکچر دینا، سلسلہ خطابات دینا۔ أَحْضَرَ ہٗ/ہٗ: کولانا۔ ـــ ہٗ: کو مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ ـــ ہٗ/ہٗ الی: کو کسی جگہ لیجانا۔ أَحْضَرَ ہٗ معہ: کو ساتھ رکھنا، ساتھ لانا۔ تَحَضَّرَ ل: کے لئے تیار ہونا۔ ـــ: تیار ہونا، کسی متمدن علاقہ میں آباد ہونا، رہنا، مہذب یا متمدن ہونا، تہذیب و تمدن کی حالت میں ہونا، شہریت اختیار کرنا، شہری بن جانا۔ إِحْتَضَرَ ہٗ: کے پاس آنا، کے پاس ہونا۔ ـــ: کسی متمدن علاقہ میں رہنا۔ اُحْتُضِرَ: مرجانا۔ إِسْتَحْضَرَ ہٗ: کو منگوانا۔ ـــ ہٗ/ہٗ: کو بلوانا، منگوانا، طلب کرنا۔ ـــ ہٗ: کولانا، حاصل کرنا، فراہم کرنا، جادو کے زور سے روح یا روحوں کو بلانا، کو یاد رکھنا، یاد کرنا، کو ساتھ لانا، دوا وغیرہ تیار کرنا۔ حَضَر: شہروں، دیہاتوں اور آباد لوگوں پر مشتمل متحدہ علاقہ، آباد لوگ، شہری لوگ۔ حَضَرِی: مقیم، مہذب، متمدن، شہری، شہر میں رہنے والا۔ حَضْرَۃ: موجودگی، حاضری۔ فی حَضْرَتِہٖ: کی موجودگی میں۔ الحضرۃ العَلِیَّۃ: جناب عالی، حضور والا، حضور پرنور، اعلی حضرت، مہاراج۔ حضرتکم: خطوط میں بالخصوص احترام کا خطاب، جناب۔ حضرۃ الدکتور: جناب فاضل، ڈاکٹر۔ حُضُور: موجودگی، حاضری، تشریف آوری، شرکت، موجود لوگ۔ بِحُضُورِہٖ: اس کی موجودگی میں۔ حُضُورُ الحَفلَۃِ: تقریب میں حاضری۔ حُضُورُ الذِّهن: حاضر دماغی۔ وَرَقَۃُ حُضُور: پروانہ طلبی، سمن (summons)۔ حُضُورِیّ: احکام حضوریۃ: فریقین مقدمہ کی موجودگی میں زبانی کارروائی کے بعد صادر کئے جانے والے فیصلے۔ حَضَارَۃ: تہذیب، تمدن، ثقافت، آرام سے رہنا۔ حَضِیرَۃ جمع حَضَائِر: لوگوں کا ایک چھوٹا گروہ (۶ سے ۱۲ تک لوگوں کا) خصوصاً ہوائی سکاؤٹوں کا سواروں کا دستہ، چھاپہ مار جماعت، فوجی دستہ، پرا، گشتی دستہ۔ مَحْضَر: موجودگی، حاضری، آنا، آمد، ظہور (کسی کا)، اجتماع، جلسہ، مجلس، مجمع جمع مَحَاضِر: روداد، خلاصہ کارروائی، سرکاری رپورٹ، واقعاتی معلومات کی دستاویز۔ محضر الجَرْد: سامان کی فرد یا فہرست۔ بِمَحْضَرٍ منہ: کی موجودگی میں۔ تَحْضِیر: تیار کرنا جمع تَحْضِیرات ل: کے لئے تیاری (جیسے امتحان کے لئے تیاری): (خوراک وغیرہ) تیار کرنا، پکانا، کھانا بنانا، بنوٹ، (چیزیں) ...

المدارس التحضیریۃ للمعلمین: اساتذہ کو تیار کرنے والے ادارے، اساتذہ کے کالج۔ مُحَاضَرَۃ جمع مُحَاضَرَات: لیکچر۔ إِحضار: فراہمی، لانا، بہم رسانی۔ تَحَضُّر: زندگی کا متمدن اسلوب۔ احتضار: موت، وفات۔ اِسْتِحْضَار: بنانا، تیار کرنا، تیاری، بلانا، طلب کرنا۔ استحضار الارواح: روحوں کو بلانا۔ أرواحیت (spiritism)۔ حَاضِر جمع حُضَّر و حُضُور: حاضر، موجود۔ الحاضر: زمانہ حاضر۔ ـــ ل: کے لئے تیار جمع حُضَّار و حَضَرَۃ: آباد، مقیم، گاؤں یا شہر میں رہنے والا۔ فی الوقتِ الحاضر: اب، اس وقت۔ حاضِرُ الفکر: تیز فہم، برجستہ جواب دینے والا۔ نَقْدٌ حاضِرٌ: زرنقد، نقد۔ حَاضِرَۃ جمع حَوَاضِر: بڑا شہر، دار الحکومت، شہر (بطور مرکز تمدن و تہذیب)۔ مَحْضُور: جس پر کسی کا سایہ ہو، جس پر جن مسلط ہوں، آسیب زدہ۔ مُحَضِّر: بنانے والا، چیر پھاڑ کرنے والا۔ مُحَاضِر: لیکچرار، مقرر، خطیب۔ مُحْضِر: عدالت کا حاجب، دربان۔ مُتَحَضِّر: متمدن، مہذب۔ مُحْتَضَر: جو مر رہا ہو، قریب المرگ، مرنے والا، جس پر جن مسلط ہوں، آسیب زدہ۔ مُسْتَحْضَر جمع مستحضرات: تیار کی ہوئی دوا، مستحضر دوائی: تیار کردہ دوا۔

○ حَضْرَمَوْت: حضرموت (ایک شہر کا نام)۔ حَضْرَمِیّ جمع حَضَارِم: حضرموت کا رہنے والا حضرمی۔

حضن: ۱۔ حَضَنَ ـُ حَضْناً و حِضَانَۃً و إحتَضَنَ الصبیَّ: بچہ کو گود میں لینا، سینے سے لگانا، بچہ کی پرورش کرنا۔ الحِضْن جمع أَحْضَان و حُضُون: گود۔ اس قدر مقدار جو گود میں آسکے۔ کہا جاتا ہے: اعطاہ حِضْناً من التمر: اس نے اس کو گود بھر کھجوریں دیں۔ الحاضِنَۃ جمع حَوَاضِن: بچہ کو پالنے والی دایہ۔ الحَضَانَۃ: کنڈر گارٹن، بچوں کی پرورش گاہ۔ دار الحَضَانَۃ: بچوں کا گھر، ننھوں کا دن کا سکول۔ الحِضَانَۃ: دایہ گری، پرورش۔ المُحْتَضَن: گود۔

۲۔ حَضَنَ ـُ حَضْناً و حَضَانَۃً و حِضَاناً و حُضُوناً و إِحتَضَنَ الطیرُ بیضَہٗ و علی بَیْضِہٖ: پرندہ کا انڈے سینا۔ الحُضْنَۃ: انڈے سینا۔ الحاضِنَۃ جمع حَوَاضِن: انڈے سینے والا پرندہ۔ حمامۃ حَاضِن و حَمَام حَوَاضِن: انڈے سینے والی کبوتری یا کبوتر۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۳۔ حَضَنَ ـ حَضْنًا و حَضَانَةً ہُ عن كذا: کو سے الگ کرنا، دور کرنا۔ أَحْضَنَ بِحَقِّهٖ: کا حق مارنا، کو حق سے محروم کرنا۔ ـــ الرجلَ و بالرجل: کو حقیر کرنا۔ الحِضْن جمع أَحْضَان و حُضُون: کنارہ، پہلو۔

۴۔ حَضُنَ ، حِضَانًات المرأةُ او الشاةُ او الناقةُ: عورت، بکری یا اونٹنی کے چھوٹے بڑے پستان یا تھن والی ہونا صفت حَضُون۔

۵۔ الحِضْن جمع أَحْضَان و حُضُون: پہاڑ کی جڑ۔ کہا جاتا ہے: عَشَّشَ الطائِرُ فی حِضْنِ الجبل: پرندہ نے پہاڑ کی جڑ میں گھونسلا بنایا۔ المِحْضَنَة: پیالہ کی طرح کا ایک مٹی کا برتن۔

○ حَضَنَ ـ حَضْنًا و حِضَانَةً ہ: کو بازوؤں میں بھینچنا، گلے لگانا، آغوش لینا، گود میں لینا، کو پیار سے گلے لگانا۔ ـــ ہ: بچہ کی پرورش کرنا، پالنا، بچہ کی تربیت کرنا۔ ـــ حَضْنًا و حِضانًا و حِضَانَةً و حُضُونًا ہ: پرندہ کا انڈے سینا، انڈوں پر بیٹھنا، بچے نکالنا۔ تَحَاضَن: ایک دوسرے سے گلے ملنا، ایک دوسرے کو گلے لگانا، آغوش لینا، ہم آغوش ہونا، ایک دوسرے سے لپٹنا، چمٹنا۔ اِحْتَضَن ہ/ ہ: کو اپنے بازوؤں میں دبانا، بھینچنا، گلے لگانا، آغوش لینا، سے ہم آغوش ہونا، کو پیار سے گلے لگانا۔ ـ ہ: سینے میں جذبہ رکھنا، (کی) تدبیر نکالنا، (منصوبہ وغیرہ) پکانا، (قصہ) گھڑنا، (بہانہ) تراشنا۔ ـــ ہ: بچہ کی پرورش کرنا، تربیت کرنا، بچہ کو پالنا۔ حِضْن جمع أَحْضَان: گود، اتنی چیز جو ہاتھ میں لے سکیں، قَبِلَهٗ بالحضن: اس نے اس کا بازو کھول کر استقبال کیا۔ بین احضان اور فی أَحضان: کے بیچ میں، کے درمیان میں، کے ساتھ، کی موجودگی میں۔ فی احضانِ الصحراء: بیابان کے قلب میں، کی تہوں میں، گوشوں میں۔ أَخَذَتْنِی بین أَحْضَانِها: اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ حِضَانَة: بچہ کی پرورش، تربیت، انڈے سینا۔ دار الحضانة: بچوں کا گھر، بچہ خانہ، بچوں کی پرورش گاہ یا تربیت گاہ۔ حَضِين: ہم آغوش، گلے ملا ہوا، گلے لگا ہوا، گلے لگایا ہوا، کسی کے بازوؤں میں۔ مَحْضَن جمع مَحَاضِن: بچوں کا گھر، بچوں کی پرورش گاہ یا تربیت گاہ۔ اِحتضان: ہم آغوشی، گلے ملنا، گلے لگانا، تعریف، منظوری یا احترام کا انعام۔ حَاضِنَة جمع حَوَاضِن: بچوں کی دایہ۔ مُحْتَضِن: گلے لگانے والا، آغوش

دلدادہ، شیدائی، شفقت آمیز، محبت آمیز۔

حضا: حَضَا ـ حَضْواً النارَ: آگ کو کریلنی سے ہلانا۔ المِحْضا و المِحْضَاء: آگ کو ہلانے کی لکڑی، کریلنی، المِحْضَی: مٹی کی انگیٹھی۔

حطّ: ا۔ حَطَّ ـ حَطًّا: اترنا، نیچے آنا، گرنا۔ ـــ حَطًّا و حُطُوطًا السعرُ: بھاؤ کا کم ہونا، گرنا، سستا ہونا۔ ـ حَطًّا و اِحْتَطَّ اِحْتِطَاطًا الحِملَ: جانور کی پیٹھ سے بوجھ اُتارنا۔ کہا جاتا ہے: حَطَّ رحلَه: اس نے اقامت کی۔ اِنْحَطَّ: اترنا۔ کہا جاتا ہے: حَطَّهُ وَانْحَطَّ: اس نے اسے ذلیل کیا تو وہ ذلیل ہو گیا۔ ـ السعرُ: بھاؤ سستا ہونا، ارزاں ہونا۔ کہا جاتا ہے: الأَسعارُ حَاطَّةٌ و منحطة: قیمتیں سستی ہیں۔ اِسْتَحَطَّ: نیچے اترنے کی درخواست کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِسْتَحَطَّ فلانًا وِزْرَهٗ: اس نے فلاں شخص سے اپنا بوجھ اتارنے کے لئے کہا۔ ـــ الثمن شيئًا: کچھ قیمت کم کرنے کی درخواست کرنا۔ المَحَطّ و المَحَطَّة جمع مَحَاطّ و مَحَطَّات: اترنے کی جگہ، ٹھہرنے یا رکنے کی جگہ۔ محطة قِطار السِكّة الحديدية و محطة القطار الكهربائی: ریلوے سٹیشن، بجلی کی ٹرین کا سٹیشن۔ الحِطَّة و الحِطِّيْطَى: بوجھ اتارنے کی درخواست۔ الحَطِيط: تھوڑا، چھوٹا۔ الحَطِيطَة: قیمت کی کمی۔ الإنْحِطَاطُ النفسی: نفسیاتی گراوٹ۔

۲۔ حَطَّ ـ حَطًّا و إحْتَطَّ إحتطاطًا الشیءَ: چیز کو رکھنا، ترک کرنا۔

۳۔ حَطَّ ـ حَطَاطًا و اَحَطَّ الوجهُ: چہرے پر مہاسے نکلنا۔ الحَطَاط واحد حَطَاطَة (طب): مہاسے۔

۴۔ حَطَّ ـ حَطَاطًا البعيرُ: اونٹ کا نکیل کو ایک جانب دبانا۔

۵۔ حَطَّ ـ حَطًّا الجلدَ: چمڑے پر پالش کرنا، لوہے سے چمڑے پر نقش کرنا۔ المِحَطّ و المِحَطَّة: چمڑے پر پالش یا نقش کرنے کے لئے لوہے یا لکڑی کا تیار کردہ آلہ۔ الحُطُط: نرم و نازک ابدان (جمع بدن)۔ الأَحَطّ: نرم و چکنی پیٹھ والا۔ مَحْطُوط (مفع): پالش کیا ہوا۔ اَدِيمٌ مَحْطُوط: پالش شدہ ادھوڑی۔ سيفٌ محطوط: تیز کی ہوئی تلوار۔

۶۔ اِنْحَطَّتِ الناقة فی سيرها: اونٹنی کا تیز

marfat.com

الحُطاط: بدبو۔ الحِطّان: بکرا۔

۸۔ حَطْحَطَ الشیءُ: چیز کا اترنا۔ ـــ الرجلُ: جلدی کرنا۔

○ حَطَّ ـ حَطًّا ہ: کو رکھنا، (بوجھ) اتارنا۔ ـــ ہ/من: کو کم کرنا۔ ـــ من قَدْرِه یا من قيمتِهٖ: کی قدر و قیمت گھٹانا۔ حَطَّ الرِحَالَ: رکنا، ٹھہرنا، اترنا، کوچ میں پڑاؤ ڈالنا۔ ـــ ـ حَطًّا و حُطُوطًا: ڈوبنا، اترنا، پرندہ کا زمین پر اترنا، آ رہنا، ہوائی جہاز کا زمین پر اترنا، قیمت کا گرنا۔ حَطَّطَ ہ: بوجھ اتارنا۔ اِنْحَطَّ: ڈوبنا، اترنا، کم ہونا، گھٹنا، گرنے لگنا، بگڑنا، رو بہ تنزل ہونا، زوال میں آنا، گرنا، برباد ہونا، گھٹ جانا، کم ہو جانا۔ اِحْتَطَّ ہ: کو اتارنا۔ حَطّ: اتارنا، کم قدری، کمیء قیمت، گھٹا کر بتانا، برے لفظوں میں بیان کرنا۔ ـ من: بے قدری، تحقیر، ہتک، توہین، استخفاف، کی کمی۔ حِطّة: تخفیف، تسکین، چارہ سازی، دستگیری، نجات، نرمی، ذلت، خواری، بے قدری، خفت، تحقیر، ہتک، رسوائی، ذلت، پستی، گراوٹ (درجہ، مرتبہ، عظمت، ساکھ میں) توہین، تذلیل، شرمساری، بے عزتی، بدسوری۔ اَحَطّ: زیادہ نیچا۔ حَطِيطَة: قیمت میں کمی۔ مَحَطّ: رُکنے کی جگہ، رکھنے کی جگہ، مختصر وقفہ، سر، آواز کا اتار چڑھاؤ، آواز کا زیر و بم۔ مَحَطُّ الآمال: جس سے امیدیں وابستہ کی گئی ہوں، امیدوں کا مرکز۔ كان محط الأنظار: کی طرف توجہ مبذول کرنا۔ محط الكلام: الفاظ کا معنی یا مفہوم۔ مَحَطَّة جمع مَحَطَّاتٌ: رکھنے کی جگہ، سٹاپ، سٹیشن، پوسٹ، ریلوے سٹیشن، براڈ کاسٹنگ سٹیشن، ریڈیو سٹیشن۔ محطة تحويل التيّار: ٹرانسفارمر سٹیشن۔ محطة الإذاعة (اللاسلكيّة): براڈ کاسٹنگ سٹیشن، ریڈیو سٹیشن، ٹرانسمیٹر (اسٹیشن)۔ محطة رئيسية: بڑا ریلوے سٹیشن۔ محطة الاشارات: سگنل پوسٹ۔ محطة الإرسال: ٹرانسمیٹر (اسٹیشن)۔ محطة لِلأَرْصَادِ الجوية: موسمیاتی سٹیشن۔ محطة الصَرْف: پمپ سٹیشن (پانی نکالنے کے لئے) پاور پلانٹ۔ محطة الاستقبال: رسیونگ سٹیشن (receiving station)۔ محطة لاسلكيةٌ قصيرةُ الأمواج: شارٹ ویو ٹرانسمیٹر اسٹیشن۔ محطة توليد الكَهْرَباء و محطة كَهْرَبائية: پاور پلانٹ۔ إنحطاط: زوال، انحطاط، تنزل، گراوٹ، کمتری، کہتری۔ احساس الانحطاط: کمتری کا شعور، اِنحطاطِی: مابعد

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

معیاری قلمکار۔ مُنحَطٌّ: نیچا، کمینہ، نچلی سطح کا، نچلے درجے کا، گری ہوئی، اخلاق باختہ (عورت)؛ شرمناک، گندا، بازاری، سوقیانہ، کم رتبہ۔

حَطَأَ ۔ حَطْأً الارضَ بہ: کو زمین پر پچھاڑ دینا، گرا دینا۔ — بالشیءِ: چیز کو پھینکنا۔ — بہ عن کذا: کو سے ہٹانا، جھکانا۔ — الحِطءُ: برتن میں بچا ہوا پانی۔ کہا جاتا ہے: حِطءٌ من التمر: کھجور کی اتنی مقدار جو پیٹھ پر اٹھائی جا سکے۔ الحُطَیْءُ من الناس: ذلیل لوگ۔ کہا جاتا ہے۔ ھو حُطَیءٌ بطیءٌ: وہ ذلیل بے تابع بن کر آیا ہے۔ الحُطَیْئَۃُ: بدشکل پست قد آدمی۔ شاعر جرول کا لقب۔ بعض کے نزدیک بدصورتی کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا تھا۔

حطب: ۱۔ حَطَبَ ۔ حَطْبًا: لکڑیاں جمع کرنا صفت حاطِب۔ — ہٗ: کے پاس لکڑیاں لانا۔ کہا جاتا ہے: حَطَبَ فی حبلہ: اس نے اس کی مدد و اعانت کی۔ حطب علیہ بخیر: وہ اس کے پاس بھلائی لایا۔ — المکانُ: بہت لکڑیوں والی جگہ ہونا۔ مکانٌ حطیب: بہت لکڑیوں والی جگہ۔ ارضٌ حطیبۃ: بہت لکڑیوں والی زمین۔ اَحْطَبَ: لکڑیاں جمع کرنا۔ — المکانُ: بہت لکڑی والی جگہ ہونا۔ — و اِستَحْطَبَ الکرمُ: انگور کی بیل سے شاخیں کاٹنے کا وقت آنا۔ اِحْتَطَبَ: لکڑیاں جمع کرنا۔ الحَطَب جمع اَحْطاب: جلانے کی لکڑی۔ حَطَبَۃ: اس کا ایک ٹکڑا، ایندھن (لکڑیوں پر مشتمل)۔ الحاطِب: لکڑیاں جمع کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: ھو حاطبُ لیلٍ: وہ کلام میں رطب و یابس ملانے والا ہے۔ الحَطّاب: لکڑیاں جمع کرنے والا لکڑیاں بیچنے والا۔ الحَطُوبہ: لکڑیوں کا گٹھا۔ الحَطّابۃ: لکڑیاں جمع کرنے یا بیچنے والی، لکڑیاں جمع کرنے والے۔ الحَطُوبۃ: لکڑیوں کا گٹھا۔ الحَطّابۃ: لکڑیاں جمع کرنے یا بیچنے والی، لکڑیاں جمع کرنے والے۔ المِحْطَب: لکڑیاں کاٹنے کا آلہ۔

۲۔ حَطِبَ ۔ حَطَبًا بہ و علیہ: کسی کی چغلی کھانا، پر افترا باندھنا۔

۳۔ الحَطِب مؤنث حَطِبَۃ و الاَحْطَب مؤنث حَطْباء جمع حُطْب: بہت دبلا۔

○ حَطَبَ ۔ حَطْبًا: جلانے کی لکڑیاں جمع کرنا۔ حطب فی حبلہ: کی مدد کرنا، پشت پناہی کرنا، کا سہارا ہونا، کی حمایت کرنا۔ اِحْتَطَبَ: جلانے کی لکڑیاں جمع کرنا۔ حَطَب جمع اَحْطاب: جلانے کی لکڑیاں۔ حَطّاب: لکڑیاں جمع کرنے والا، لکڑیاں کاٹنے والا، چوب تراش، جنگل میں عمارتی لکڑی کاٹنے والا، جلانے کی لکڑیاں بیچنے والا۔ تحطیب: پے بازی، تباہ کرنا۔ حاطب: لکڑیاں جمع کرنے والا، لکڑیاں کاٹنے والا، جلانے کی لکڑیاں بیچنے والا، جنگل میں عمارتی لکڑی کاٹنے والا۔ کحاطب لیل: رات کو لکڑیاں کاٹنے والے کی طرح، اندھا دھند، بے سوچے سمجھے (اس شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جو یہ پوری طرح نہیں سمجھتا یا سوچتا کہ وہ کیا کر رہا ہے)۔

حطم: ۱۔ حَطَمَ ۔ حَطْمًا ہٗ و حَطَّمَ ہٗ: کو توڑنا۔ تَحَطَّمَ و اِنْحَطَمَ: ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے: تَحَطَّمَ الرجلُ غیظًا: وہ غصہ سے بھڑک اٹھا۔ اِنْحَطَمَ الناسُ علیہ: لوگوں نے اس پر بھیڑ کی اور ایک دوسرے کو توڑا پھوڑا۔ الحُطَم: ظالم و بے درد چرواہا۔ — و الحُطَمۃ: بسیار خور، سب کچھ چٹ کر جانے والا۔ الحَطُوم: سخت تند ہوا۔ کہا جاتا ہے: رِیحٌ حَطُوم: تند ہوا جو ہر چیز کو توڑ ڈالے۔ — و الحَطّام و المِحْطَم: شیر۔ الحُطَمَۃ: تیز آگ۔ بہت سے اونٹ اور بہت سی بکریاں، جہنم، دوزخ۔ الحِطْمَۃ و الحُطامۃ و الحُطام: ٹوٹی ہوئی سوکھی چیز۔ حُطام البیض: انڈے کا چھلکا۔ حطام الدنیا: دنیا کا سامان تھوڑا ہو یا بہت جو فنا ہو جاتا ہے اور باقی نہیں رہتا۔ الحَطِیم: کعبہ شریف کے کنارے کی دیوار رکن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ۔ الحاطُوم (طب): ہاضم دوا یا غذا۔ — و الحَطْمَۃ و الحُطْمَۃ: سخت سال۔ الحُطَمِیَّۃ: حُطمہ نامی شخص کی طرف منسوب زرہیں۔ بعض کے نزدیک تلواروں کو توڑ دینے والی زرہیں۔ اور بعض کے نزدیک بھاری اور چوڑی زرہیں۔

۲۔ حَطِمَ ۔ حَطَمًا: بڑی عمر والا ہونا۔

○ حَطَمَ ۔ حَطْمًا ہ: کو توڑنا، پاش پاش کر دینا، توڑ پھوڑ ڈالنا، ڈھانا، کی دھجیاں اڑانا۔ حَطَّمَ ہ: بمعنی حَطَمَ ہ۔ تَحَطَّمَ: ٹوٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پاش پاش ہونا، ٹوٹ پھوٹ جانا، عمارت یا ہوائی جہاز کا گر پڑنا۔ بحری جہاز کا تباہ ہو جانا۔ اِنْحَطَمَ بمعنی تَحَطَّمَ۔ حِطْمَۃ جمع حِطَم: ذرہ، چھوٹا ٹکڑا، ٹکڑا، لقمہ، نوالہ، ٹوٹی ہوئی چیز۔ حُطام: ملبہ، روڑے، ٹکڑے، ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، شکستہ بحری جہاز، ڈوبا ہوا بحری جہاز، ٹوٹی پھوٹی چیز، کھنڈر، تباہ شدہ، ڈوبا ہوا (بحری جہاز)۔ حُطام الدنیا: اس

حَطِیم: تباہ شدہ، پاش پاش، تہس نہس۔ تحطیم: ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پاش پاش کرنا، تباہ کرنا، توڑنا پھوڑنا، ڈھانا، مسماری، تباہی، انتشار۔ سفینۃ تحطیم الجلید: برف توڑ کر سمندر میں راستہ بنانے والا جہاز (icebreaker)۔ تحطم: ریزہ ریزہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، انتشار، ہوائی جہاز کا گرنا، گر جانا، دھڑام سے گرنا، وقعۃً گرنا، ٹوٹ جانا (مشین وغیرہ کا)۔ حاطِمۃ الجلید: بمعنی سفینۃ تحطیم الجلید۔ مُحَطِّم: ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، پاش پاش کرنے والا، گرجنے والا، کڑکنے والا، گرج دار (دھماکہ وغیرہ)۔ مُحَطَّم: ٹوٹی پھوٹی ویران۔ مُحَطِّمۃ ثلجیۃ: بمعنی سفینۃ تحطیم الجلید۔

حظ: حَظَّ ۔ حَظًّا و حُظًّا و اَحَظَّ: نصیب والا ہونا، صفت: حَظِّیّ و حَظِیظ و مَحْظُوظ۔ الحَظّ جمع حُظُوظ و حِظاظ و اَحُظّ: نصیب، حصہ، بہرہ، خیر و فضل، کبھی شر کے لئے بھی بولا جاتا ہے، مال داری، خوش قسمتی، سعادت۔

○ حَظَّ ۔ حَظًّا: خوش قسمت ہونا، خوش نصیب ہونا۔ اَحَظّ: بمعنی حَظّ۔ حَظّ و حُظُوظ: حصہ، قسمت، تقدیر، نصیبہ، مقدر، نصیب، خوش قسمتی، خوش نصیبی، دولت مندی، امارت، تمول، فروغ، خوشی، مسرت، سعادت۔ ذو حظٍّ من: سے مزین، ودیعت شدہ۔ لِحُسنِ الحظّ اور من حُسنِ الحظ: خوش قسمتی سے۔ سُوءُ الحظ: بدقسمت، بدنصیب۔ سَیِّءُ الحظ: بدقسمت، بدنصیب۔ لِسُوءِ الحظّ: بدقسمتی سے، بدنصیبی سے۔ مِن حُسنِ حَظِّی: میری خوش قسمتی سے۔ کان من حُسنِ حَظِّہ ان: وہ اس کی خوش قسمت تھا کہ اس نے۔ لیس احسن منہا حظًّا: وہ اس عورت سے زیادہ اچھی حالت میں نہیں۔ حَظِیظ: خوش قسمت، خوش نصیب۔ مَحظُوظ: خوش قسمت، خوش نصیب، خوش، مسرور، مطمئن، قانع، راضی۔

حظب: حَظَبَ ۔ حُظُوبًا و حَظِبَ ۔ حَظَبًا الرجلُ: موٹا ہونا، پست قد موٹے پیٹ والا ہونا، صفت: حَظِب مؤنث حَظِبَۃ۔ الحُظُبّ: پست قد موٹے پیٹ والا، اجڈ، اکھڑ، تنگ خلق، بخیل۔

حظر: ۱۔ حَظَرَ ۔ حَظْرًا: اپنے لئے باڑہ یا احاطہ تیار کرنا۔ — ہُ الشیءَ و — علیہ الشیءَ: کو سے منع کرنا، روکنا۔ — الشیءَ: کو محفوظ کرنا یعنی غیر کے تصرف سے رکنا۔ — المواشی: مویشیوں کو باڑہ میں بند کرنا۔ حَظَّرَ بمعنی حَظَرَ (تشدید

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مبالغہ کے لئے)۔ أَحْظَرَ: دوسرے کے لئے باڑہ یا احاطہ بنانا۔ إِحْتَظَرَ: بمعنی حَظَر۔ ۔ بہ: سے خود کو محفوظ کرنا، بچانا۔ الـحَـظِر: درخت کی شاخ جس سے باڑہ بنایا جائے، تر کانٹا۔ کہا جاتا ہے: وقع فی الـحـظر الرَّطْب: وہ ایسے معاملہ میں پھنس گیا جس کی اسے طاقت نہیں۔ مـجـازاً: اوقد فـی الـحـظـر الـرطـب: اس نے چغلخوری کی۔ کہا جاتا ہے: جـاءَ بالحَظِر الرطب: وہ مال کثیر لایا یا اس نے بہت جھوٹ بولا۔ المَحْظُور: ممنوع، ناجائز۔ کہا جاتا ہے: الـضَـرُورَاتُ تُبِيـحُ الـمَحْظُورات: ضرورتیں، ممنوع یا حرام چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ الحَظِيرَة جمع حَظَائر و الحَظَار و الحِظار: ہر وہ شئے جو تمہارے اور کسی چیز کے درمیان حائل ہو۔ باڑہ کہا جاتا ہے: انه لنكِد الحظيرة: وہ کنجوس اور بے خیر ہے، کبھی بخیل کے مال کو بھی حظیرہ کہتے ہیں۔ حظيرةُ القُدُس: جنت۔

۴۔ حَظْرَبَ القوسَ: تانت کمان پر مضبوطی سے چڑھانا۔ ـــ الحبلَ: رسّی کو اچھی طرح بٹنا۔ ـــ السقاءَ فتَحَظْرَبَ: مشک کو بھرنا اور نتیجۃً مشک کا بھر جانا۔

حَظَرَ ـ حَظْراً ہ: میں باڑ لگانا، کانٹے لگانا۔ ـــ علی ہ: سے کوئی چیز روکنا، کو کچھ کرنے سے منع کرنا۔ حظر: ممانعت، قدغن، روک دینا، پابندی۔ حِظار و حَـظَـار: دیوار، پردہ، پارٹیشن، آڑ، اوٹ، پردہ، جنگلا، باڑ، باڑا، کٹہرا۔ حَـظِـيـرَة جمع حَظَائِر: احاطہ، باڑ، جنگلہ، باڑہ، جھاڑی کی باڑ، آنگن، صحن، مکان، کانجی گھر، مویشیوں کا باڑا، مکان یا اصطبل کے پاس گھاس کا مختصر میدان، پنجرا، مرغیوں کا ٹاپا یا کھڈا۔ ہوائی جہازوں کے لئے چھپر (ہینگر)، چھپر، شیڈ (shed)، میدان، خیال وعمل کا میدان (مجازاً)۔ فـی حظيرة: کے اندر۔ جَـذَبَـهُ الی خطيرته: کو اپنے زیر اثر لانا۔ حـظـائـر الطائِرات: ہوائی جہازوں کے چھپر، ہینگر۔ حظيرةُ القُدس: جنت۔ مَـحْـظُورٌ علی: پر ممنوع۔ مَـحْظُورٌ: پابندی لگا ہوا، بندش لگا ہوا جمع مَـحْـظُورات: ممنوعہ اشیاء، پابندیاں۔

حظل: ۱۔ حَـظَلَ ـ حَـظْلاً و حِـظْلانـاً و حَظَلاناً علیہ: کو حرکت اور تصرف سے روک دینا۔ ـــ الـمشـیَ: چلنے میں ٹھہرنا اور وقفہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: هـو يـحظلُ حَظَلاناً: وہ غصہ والی چال چلتا ہے۔ الـحَـظِـل و الـحَـظَّال و الحَظُوا: اپنے اہل و عیال پر بہت کنجوسی سے خرچ کرنے والا۔

۲۔ حَـظِلَ ـ حَـظَلاً الـبعـيرُ: اونٹ کا بہت اندرائن کھانا، صفت: حَظِل۔ ایسے اونٹوں کو حَـظَالی کہا جاتا ہے۔ اَحْـظَـلَ الـمكانُ: جگہ کا بہت اندرائن والی ہونا۔

حظا: ۱۔ حَظَا ـ حَظْواً: آہستہ چلنا۔ الحُظَيَّا: آہستہ چال۔ کہا جاتا ہے: مَشَـی الحظيا: وہ آہستہ چال چلا۔

۲۔ حَظِیَ ـ حُـظْوَةً وحِظْوَةً و حِظَةً: صاحب مرتبہ ہونا، صاحب نصیب ہونا۔ ـــ و بـالرزق: رزق کا حصہ حاصل کرنا۔ أَحْظَی ہُ: کو نصیب والا بنانا۔ ـــ ہُ بـالمال: کو مال کا حصہ دینا۔ ـــ ہُ علی فلان: کو فلاں شخص پر ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ إِحْتَـظَـی: صاحب مرتبہ ہونا، صاحب نصیب ہونا۔ الـحَـظْـو (مص): حصہ۔ الـحِظَة جمع حِـظًا و حِـظَاء: حصہ، مرتبہ۔ الحُظْوَة والحِظْوَة: مرتبہ۔ الحَظِی: رتبہ والا۔ الـحَـظِيّ: لوگوں کا پیارا، محبوب و اونچے مرتبے والا۔ الحَظِيَّة جمع حَـظَـايا: الحَظِيّ کا مونث: حاکم یا بادشاہ کی پیاری یا محبوبہ لونڈی۔

۳۔ الحَظْوَة جمع حِـظَاء و حَظَوَات: درخت کی جڑ کی نرم شاخ، چھوٹا تیر۔ الـحُظَيَّة جمع حُظَيَّات: بغیر پھل کے چھوٹا تیر، ضرب المثل: احدی حُظَيَّاتِ لـقمان: لقمان کا ایک تیر تیر پھینکنے کی جگہ۔ لقمان سے یہاں مراد لقمان بن عاد ہے جو گزرے ہوئے عربوں سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ضرب المثل بڑی برائیوں کے عادی کی طرف سے ایک چھوٹی برائی کے بارے میں بولی جاتی ہے۔

حظی: الحَظَی واحد حَظَاة (ح): جوں۔ الحظی جمع أُحْظٍ وجمع الجمع: اَحَاظٍ: حصہ، نصیب۔

حَـظِیَ ـ حَـظْـوَةً وحِـظْـوًا عند: کی کرم فرمائی یا نوازشوں سے لطف اندوز ہونا، کی حمایت میں ہونا۔ ـــ ب: کو حاصل کرنا۔ حُـظْوَة وحِظْوَة: ناجائز مدد والی حیثیت، منظورِ نظر کا کردار، مہربانی، نوازش، برتری، ساکھ، فیض رسانی، وقار، وقعت، عزت، احترام، بڑی یا مسلمہ حیثیت۔ نـال حـظـوةً عـندَ (لـدی): کا قرب حاصل کرنا۔ حَـظِيَّة جمع حَـظَايا: داشتہ، آشنا، محبوبہ، معشوقہ۔ مَحْظِيَّة جمع مَحْظِيات: داشتہ، آشنا، محبوبہ، معشوقہ، یار۔

حفّ: ۱۔ حَفَّ ـ حَـفًّـا القومُ الرجلَ و بِهِ وحولَهٗ: کو گھیرنا۔ ـــ ہُ بكذا: کا سے احاطہ کرنا۔ ضرب المثل: مَـنْ حَـفَّـنا او رَفَّنا فليقتصد: جو ہماری [illegible]

اور تعریف کرے تو اُسے چاہیئے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ حَـفَّفَ الـقـوم حـولَـهُ وحَفَّفُوهُ: کو گھیرنا، کا احاطہ کرنا۔ ـ ہ بكذا: کا سے احاطہ کرنا۔ إِحْتَفَّ الـقـومُ بہ: کا احاطہ کرنا۔ الحَفّ: خیال رکھنے والا، دلچسپی لینے والا۔ کہا جاتا ہے: فـلانٌ حفّ عـلـی نفسـه: فلاں شخص اپنی ذات میں دلچسپی لیتا ہے، یا اپنا بہت خیال رکھتا ہے۔ ـــ والـحَفَف: کنارا۔ الـحَافّ (فا): کہا جاتا ہے: مـالـه حافّ ولا رافّ: اس کے کاموں کی دیکھ بھال کرنے والا یا اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ الـحِـفـاف جمع أَحِـفَّة: جانب۔ الـحَـفَّـان: نوکر چاکر، بھرا ہوا برتن۔ کہا جاتا ہے: اِنـاءٌ حَـفَّـان: بھرا ہوا برتن۔ الـحَـفَّة: کپڑا لپیٹنے کی جولاہے کی لکڑی، گڑھے کے کنارے کی زمین۔ الـمِـحَفَّة: مسافر کو لیجانے کی پالکی، اسٹریچر، تخت رواں، ہودج کی طرح کی عورتوں کی پالکی۔

۲۔ حَفَّ ـ حَفًّا و حِفافًا الشیءَ: کا چھلکا اتارنا۔ ـــ اللحيةَ: داڑھی مونڈنا یا کترنا۔ ـــ الوجهَ: چہرے کے بال دور کرنا۔ اِحْتَفَّ الشیءَ: کا چھلکا اتارنا۔ ـــ النبتَ: سبزہ کاٹنا۔ الـحِفَاف جمع أَحِفَّة: گنجے کے سر کے گرداگرد کے بال۔ الـحُـفَـافَة: گرے ہوئے بال وغیرہ۔

۳۔ حَفَّ ـ حُـفُـوفًـا سـمـعُـهُ: بہرہ ہونا۔ اِحْتَفَّ جـمـيـع مـا فـی القِدر: ہانڈی میں جو کچھ ہو اسے چٹ کر جانا۔ اِسْـتَـحَفَّ الـمـالَ: سب مال لے لینا۔ الـحَـفَّـة: اونٹوں کی خوراک کی مقدار۔ الـحِفَاف جمع أَحِفَّة: کھائے جانے کی مقدار۔ کہا جاتا ہے: كـان الـطعامُ حِفَافَ ما أَكَلُوا: کھانا اسی قدر تھا جس قدر انہوں نے کھایا۔

۴۔ حَفَّ ـ حُـفُـوفًـا تِ الأرضُ حفوفًا: زمین کی سبزی کا خشک ہونا۔ ـــ بَطْنُ الرجلِ: گوشت اور چربی نہ کھانے پر سوکھ جانا۔ خُبـزٌ حافٌّ: بغیر سالن کے روٹی۔

۵۔ حَفَّ ـ حَـفَّـتْـهُ الحاجةُ: کو حاجت لاحق ہونا۔ حَـفَّفَ الـرجلُ: مصیبت زدہ اور کم مال والا ہونا۔ الحَفَف: مال کی کمی، تنگ زندگی، معاشی تنگی۔ کہا جاتا ہے: مـعـيشـةٌ حَـفَفٌ: تنگ زندگی۔ طـعـام حَفَفٌ: تھوڑا کھانا۔ المَحْفُوف (مفع): محتاج۔

۶۔ حَفَّ ـ حُفُوفًا الرجلُ: تیز نظر بد لگانے والا ہونا۔ الحافّ (فا): تیز بد نظر لگانے والا۔

۷۔ حَفَّ ـ حَفِيفًا تِ الشجرةُ او الجنَّةُ: درخت یا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سانپ کا سرسراہٹ پیدا کرنا۔

۸۔ حَفَّ - حُفُوفَاتِ اللحیةُ: داڑھی کا پراگندہ ہونا۔ اَحَفَّ اِحْفَافًا راسَهُ: سر میں مدت تک تیل نہ لگانا۔ بالوں کی دیکھ بھال نہ کرنا۔

۹۔ اَحَفَّ اِحْفَافًا الرجلَ: کو برائی سے یاد کرنا۔

۱۰۔ الحَفّ و الحَفَف: نشان قدم۔ کہا جاتا ہے: جاءَ علی حَفِّهِ او علی حَفَفِهِ: وہ اس کے نشانِ قدم پر آیا۔ الحَفَّة: پوری فیاضی۔ الحِفَاف: نشان قدم۔ کہا جاتا ہے: جَاءَ علی حِفَافِهِ: وہ اس کے نقش قدم پر آیا۔ الحَفَّان واحد حَفَّانَة (ح): شتر مرغ کے بچے۔ حَفَّانُ النعام: شتر مرغ کے پر۔ الحُفَافَة: بچا ہوا بھوسہ۔

۱۱۔ حَفْحَفَ: پرندہ کی اُڑان یا تیر پھینکنے کی سرسراہٹ یا آگ بھڑ کنے کی آواز ہونا۔

○ حَفَّ ـ حَفًّا ہ/ہ ب: کو سے گھیرنا۔ ــــ حولَ: کو گھیرنا۔ ــ ہ ب: کا احاطہ کرنا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کرنا، کو حاشیہ لگانا۔ ــ ہ: (جسم کے ایک حصہ کے بال) صاف کرنا، دور کرنا یا اڑانا، ــــ ہ: (جلد، کھال، چمڑا) کے بال دور کرنا، ــ ہ: داڑھی کترنا، تراشنا، تراش کر درست کرنا۔ ــــ ہ: کو چھیلنا، دور کرنا، کھرچ دینا، رگڑ ڈالنا۔ تحف به العیونُ: تعریفی نظریں اس کا تعاقب کرتی ہیں، وہ مرکز توجہ ہے، سب آنکھیں اُس پر لگی ہوئی ہیں۔ ــ حَفِیفًا: سرسر کرنا، سرسرانا۔ حَفَّفَ و اِحْتَفَّ ہ/ ہ/ ب/ حول: کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈال دینا، کو گھیر لینا، کو گھیرے میں لے لینا۔ ــ ہ/ب/حول: کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کر لینا، کو حاشیہ لگانا۔ حِفَاف: پہلو، کنارا۔ حَفِیف: سرسراہٹ۔ مِحَفَّة و مَحَفَّة جمع مِحَفَّات: پالکی، ڈولی، اسٹریچر، پہیے دار سٹریچر، پینس، بندکار۔ خبز حاف: سالن کے بغیر روٹی۔ حَافَّة جمع حَافَّات: احاطہ، کنارہ، حاشیہ، برتن کا کنارا یا لب، کنارا، جھالر، گوٹ، مغزی، سنجاف۔ علی حافَّةِ الخراب: تباہی کے کنارے پر۔

حفا: حَفَأَ ـ حَفْأً ہُ: کو پچھاڑنا۔ الحَفَأ واحد حَفَأَة (ن): ایک قسم کا پودا جس کی چھال کو قدیم مصری کتابت کے کام میں لایا کرتے تھے۔

حفت: حَفَتَ ـ حَفْتًا ہُ: کو ہلاک کرنا، کی گردن توڑنا۔ ــ الشیءَ: کو کوٹنا۔

حفث: الحِفْث و الحَفِث جمع اَحْفَاث و الحُفَاث جمع حَفَافِیث (ح): ایک قسم کا بڑا سانپ جو موذی نہیں ہوتا۔

حفد: ۱۔ حَفَدَ ـ حَفْداً و حُفُوداً و حَفَدَاناً و اِحْتَفَدَ فی العمل: کام جلدی کرنا۔ اَحْفَدَ الظلیمُ: شتر مرغ کا تیز چلنا۔ ــــ الظلیمَ: شتر مرغ کو تیز چلانا۔ الحَفَد: تیز چلانا۔ المُحْتَفِد من السیوف: تیز کاٹنے والی تلوار۔

۲۔ حَفَدَ ـ حَفْداً و حُفُوداً و حَفَدَاناً و اِحْتَفَدَہَ: کی خدمت کرنا۔ الحَافِد جمع حَفَد و حَفَدَة: خادم، تابع، مددگار، پوتا۔ الحَفِید جمع حَفَدَاء: پوتا۔ کہا جاتا ہے: هو حفیدی: وہ میرا پوتا ہے۔

۳۔ الحَفَدَة: نقش و نگار کرنے والے۔ المَحْفَد جمع مَحَافِد: کپڑے کی گلکاری، کوہان کی جڑ۔ و المِحْفَد: جانور کو چارہ کھلانے کا برتن۔ المَحْفِد جمع مَحَافِد: اصل۔ کپڑے کا کنارہ۔ وہ پیالہ جس سے اناج ناپ کر دیا جاتا ہے۔ پیانہ، وزن کا پیالہ۔

○ حفید جمع اَحْفَاد و حَفَدَة: پوتا، اولاد، خلف، نسل، چشم و چراغ، نونہال۔ حَفِیدَة: پوتی۔

حفر: ۱۔ حَفَرَ ـ حَفْراً الارضَ: زمین میں گڑھا کھودنا۔ ــ الطریقَ: راستہ پر چلنے سے نشان ڈالنا۔ ــ البئرَ: کنواں کھودنا۔ حَافَرَ الیربوعُ: جنگلی چوہے کا اپنے طالب پر سوراخ کو ملتبس کر دینا۔ اسی سے یہ ضرب المثل مشہور ہے: فلانٌ اروغُ من یربوع مُحافر: فلاں شخص جنگلی چوہے سے کہیں زیادہ چالاک اور مکار ہے جو اپنے ڈھونڈنے والے کیلئے اپنے بل کو پراسرار بنا دیتا ہے۔ اَحْفَرَہُ البئرَ: کی کنواں کھودنے میں مدد کرنا۔ تَحَفَّرَ السیلُ: سیلاب کا زمین میں گڑھے ڈالنا۔ اِحْتَفَرَ الارضَ: زمین میں گڑھا کھودنا۔ اِسْتَحْفَرَ النهرُ: نہر کے کھودے جانے کا وقت قریب آپہنچنا۔ الحَفَر: فراخ کنواں۔ الحَفَر جمع اَحْفَار و جج اَحَافِیر: فراخ کنواں۔ کھدی ہوئی جگہ سے نکالی ہوئی مٹی۔ الحُفْرَة جمع حُفَر و الحَفِیرَة جمع حَفَائِر و الحَفِیر: گڑھا، کھدی ہوئی زمین، قبر۔ الحَافِرَة: الحَافِر کا مؤنث، کھودی ہوئی زمین، ابتدائی حالت۔ کہا جاتا ہے: الآن قد تَعَسَّفَ و قد کان نجیباً فی الحافِرة: وہ اب راہ راست سے منحرف ہے، ابتداء میں تو وہ شریف تھا۔ الحَفَّار: کھودنے والا، گورکن (عموماً)۔ المِحْفَر و المِحْفَرَة و المِحْفَار: کھودنے کا آلہ، کدال۔

۲۔ حَفَرَ ـ حَفْراً و حَفِرَ ـ حَفَراً و حُفِرَ: دانتوں کی زردی کے باعث ان کی جڑوں کا خراب ہو جانا۔ ــ الصبیُّ: بچہ کا دودھ کے دانت گرانا۔ الحَفْر و الحَفَر: دانتوں کی زردی۔ المَحْفُور: زرد دانتوں والا۔

۳۔ حَفَرَ ـ حَفْراً الشیءَ: کی تہہ معلوم کرنا۔

۴۔ حَفَرَ ـ حَفْراً العنزَ: بکری کو دبلی کرنا۔

۵۔ الحَافِر جمع حَوَافِر (ع ا): جانور کا کھر، پہلا کلمہ۔ کہا جاتا ہے: النَقْد عِندَ الحافِر: جب تم جانور خریدو تو اس کی قیمت ادا کئے بغیر جگہ سے نہ ٹلو۔ الحَافِرَة: کسی چیز کی طرف لوٹنا۔ (رجع علی او فی حافرته: وہ اس راستہ سے لوٹ گیا جس سے وہ آیا تھا۔ یا یہ کہ وہ جس کام سے نکل گیا تھا پھر اس میں لگ گیا۔ رجع فی حافِرته: وہ بوڑھا ہو گیا)، پہلی ملاقات، کہتے ہیں: التقی القومُ فاقتتلوا عند الحافرة: لوگ جیسے ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، باہم جدال و قتال میں مصروف ہو گئے۔ الحِفْرَی (ن): ایک ریتلی نبات جو ہمیشہ سبز رہتی ہے۔ الحَافِرِیَّة (ن): ایک قسم کا پودا جس کے پھول بڑے اور کئی رنگوں کے ہوتے ہیں، جن میں اکثر زرد اور سرخ رنگ غالب ہوتا ہے اسکا اصل وطن جنوبی امریکہ ہے۔

○ حَفَرَ ـ حَفْراً ہ: کو کھودنا۔ ــــ: تیل کی تلاش میں برمے سے سوراخ کرنا، کھدائی کرنا۔ ــ ہ: کو کاٹ کر نقش بنانا، میں نقش و نگار کھودنا، پر نقاشی کرنا، قلم کاری کرنا، کندہ کرنا۔ حَفَرَ خنادق: خندقیں کھودنا۔ حَفَرَ حُفْرَةً: گڑھا تیار کرنا، کمین گاہ تیار کرنا۔ اِنْحَفَرَ: کھودا جانا، کھدنا، کاٹ کر نقش بنایا جانا، نقاشی کیا جانا، قلم کاری کیا جانا۔ اِحتفر: کھودنا۔ حَفْر: کھودنا، کھدائی، مٹی کا وحس کھود کر نکالنا، تیل کے لئے برمے سے سوراخ کرنا، نقش کندہ، تصویر کا نقش، نقش کندہ، کندہ کی ہوئی تصویر، کندہ کاری، نقاشی، لکڑی پر کندہ کاری، فساد خون کا ایک مرض۔ جهاز الحفر: کنواں کھودنے کے آلات، تیل کے کنویں پر لگایا ہوا ڈھانچہ جو برمے کو تھامتا ہے۔ حُفْرَة جمع حُفَر: گڑھا، سوراخ، کھدائی۔ حَفْرِیة: کھودنا، کھدائی۔ حفریات: کھدایان۔ حَفَّار: کھودنے والا، نقاش، برمے سے سوراخ کرنے والا، سنگتراش۔ حَفَّارُ القُبور: گورکن۔ حَفِیر: کھودا ہوا، کھود کر نکالا ہوا۔ حَفِیرَة جمع حَفَائِر: کھودی ہوئی یا کھود کر نکالی کوئی چیز۔ حَفَائِر: کھدایاں۔ اُحْفُور جمع اَحَافِیر: کھودی ہوئی چیز، آثار متحجرہ۔ اَحَافِیر: کھدائیاں۔ محْفَر جمع

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مَحَافِر: بیلچہ، پھاوڑا۔ حافِر جمع حوَافِر: کھر۔ وقع الحافر علی الحافِر: منطبق ہونا، ٹھیک بیٹھنا۔ علی الحافِر: وہیں، اسی وقت، اسی دم، موقع پر، فوراً۔ حَافِرَۃ: ابتدائی اصلی حالت، شروع، آغاز۔ عِندَ الحافِرَۃ: فوراً موقع پر، وہیں، اس کی جگہ، اسی دم۔ رجع اِلی حافرتہ: اپنی پہلی حالت یا اصل کی طرف لوٹنا۔ مَحفُور: کھودا ہوا، منقش، نقاشی کیا ہوا۔

حفز: ا۔ حَفَزَ - حَفزاً ہُ بالرمح: کو نیزہ سے مارنا۔

۲۔ حَفَزَ حَفزاً ہُ: کو اُکسانا، ابھارنا، شہ دینا، پیچھے سے دھکیلنا۔ کہا جاتا ہے: حفز اللیلُ النهارَ: رات نے دن کو ہٹادیا۔ حفزوا علینا الخیلَ و الرِکابَ: وہ گھوڑے اور سوار لے کر ہم پر چڑھ آئے۔ ـــ ہ عن کذا: کو سے دور کرنا، سے جلدی کرانا۔ تَحَفَّزَ: کودنے کے لئے تیار ہونا۔ اِحتَفَزَ: کودنے کے لئے تیار ہونا۔ ـ فی مشیہ: چلنے میں کوشش کرنا۔ الحَفُوز من القِسِیّ: تیر کو تیزی سے پھینکنے والی کمان۔

۳۔ حَافَزَہُ: کے زانوں یا زانو بیٹھنا، کے قریب ہونا۔ تَحَفَّزَ و اِحتَفَزَ: کے زانو یا سرین پر سیدھا بیٹھنا۔

۴۔ الحَفَزَ: مدت۔ کہا جاتا ہے: جعلت و بینی و بینک حَفَزاً: میں نے اپنے اور تمہارے درمیان مدت مقرر کی۔

○ حَفَزَ - حَفزًا ہ ب: کو نیزہ چبھونا، کو نیزہ گھونپنا۔ ـــ ہ علی/الی: کو پر اکسانا، ابھارنا، کو کی شہ دینا، پر کے لئے زور دینا، کو پر آمادہ کرنا، کو کی ترغیب دینا۔ تَحَفَّزَ ل/الی: کو کرنے کے لئے تیار ہونا، کو کرنے کے قریب ہونا، (کو کرنے) کے لئے روانہ ہونا۔ ـــ: کودنے کے لئے تیار ہونا، غور سے سننا، توجہ دینا۔ اِحتَفَزَ لِ: کو کرنے کے قریب ہونا، کے لئے تیار ہونا۔ تَحَفُّز: تیاری، ہمت، کس بل، دم خم، جھپٹ، تیز حرکت، زور، جوش، تیز حرکت۔ حَافِز جمع حَوَافِز علی: کے لئے مہمیز، تحریک، رجحان، میلان۔ ـــ: پہلا قدم، ابتدائی کارروائی، اقدام۔ مُتَحَفِّز لِ: کے لئے تیار۔

حفس: حَفَسَ - حَفسًا: کھانا۔ تَحَيُّفَسَ: بستر پر تلملانا۔ الحِيُفس و الحَيُفَس: وہ موٹا جس سے بھلائی کی امید نہ ہو، بلاوجہ راضی یا غصہ ہونے والا۔

حفش: ا۔ حَفَشَ - حَفشًا القومُ علیہ: پر قوم کا جمع ہونا۔ ـــ السیلُ: سیلاب کا پانی ایک جگہ جمع ہونا۔ ـــ السیلُ الوادیَ: سیلاب کا وادی کو پانی سے بھر دینا۔ الحَافِشَۃ جمع حَافِشات و حَوَافِش: پانی کے بہاؤ کی جگہ۔

۲۔ حَفِشَ - حَفَشَاتِ السحابۃُ: بادل کا یکبارگی زور کی بوچھاڑ برسانا پھر رک جانا۔ الحَفشۃ: بارش کی زور کی بوچھاڑ۔

۳۔ حَفَشَ - حَفشًا المطرُ الارضَ: بارش کا زمین پر روئیدگی ظاہر کرنا۔

۴۔ حَفَشَ - حَفشًا الفرسُ: گھوڑے کا بار بار دوڑنا اور ہر بار پہلے سے اچھا دوڑنا۔ ـ فی الامر: کسی کام میں کوشش کرنا۔

۵۔ حَفَشَ - حَفشًا فلانًا: کو دھکا دینا۔

۶۔ حَفَشَ - حَفشًا ہُ: کا چھلکا اُتارنا۔

۷۔ حَفَّشَ و تَحَفَّشَ الرجلُ: خیمہ یا جھونپڑے میں رہنا۔ الحِفش جمع اَحفَاش و حِفاش: جھونپڑا، خیمہ۔ أحفَاشُ البیت: گھر کے سامان کی معمولی چیزیں۔ ـ الارضِ: سیہی، جنگلی چوہا وغیرہ۔

۸۔ الحِفش جمع اَحفَاش و حِفَاش: بوسیدہ چیز، کوہان، ٹوکری۔

حفص: حَفَصَ - حَفصًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ ـــ الشیءَ من یدہ: کو ہاتھ سے پھینکنا۔ الحَفص جمع أحفَاص و حُفُوص: چھوٹا گھر، چمڑے کا تھیلا (ح) شیر کا بچہ۔ الحَفَص: بیر وغیرہ کی گٹھلی۔ المِحفَصَۃ: چمڑے کا تھیلا۔ الحُفَاصَۃ: جمع کردہ اشیاء۔

حفض: ا۔ حَفَضَ - حَفضًا العودَ: لکڑی کو ٹیڑھا کرنا، موڑنا۔

۲۔ حَفَضَ - حَفضًا و حَفَّضَ الشیءَ: چیز کو ہاتھ سے پھینکنا، ڈالنا۔ ـــ القومَ: قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ دینا۔ ـ اللّٰہُ عنہ: اللہ تعالیٰ کا کسی سے تخفیف کرنا۔

۳۔ حَفَضَ - حَفضاً و حَفَّضَ الارضَ: زمین کو خشک کرنا۔

۴۔ الحَفَض جمع اَحفَاض و حِفاض: بورا جس میں قوم کا سامان ہو، گھر کا سامان جو لادنے کے لئے تیار کیا گیا ہو، اونٹ جو گھر کا سامان اٹھائے (کہا جاتا ہے: نِعمَ حَفَضُ العلم ھذا: یہ علم کیا خوب جاننے والا ہے)، بالوں کا خیمہ، کمزور اونٹ۔ کہا جاتا ہے: انہ لحَفَضُ عِلم: وہ کم علم ہے، گویا اس شخص کے علم کو چھوٹے اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

حفظ: [illegible]

اور تلف ہونے سے بچانا، کو خراب ہونے سے محفوظ کرنا۔ ـــ المالَ: مال کی نگہبانی کرنا۔ السِرَّ: بھید چھپانا۔ حَافَظَ حِفاظًا و مُحَافظۃً علی الامر: کسی امر پر ہمیشگی اختیار کرنا، کی نگہبانی کرنا۔ ـــ عنہ: کی مدافعت کرنا، کو ہٹانا۔ کہا جاتا ہے: انہ لذو حفاظٍ و ذو مُحَافظۃٍ: وہ خوددار اور آن بان کا آدمی ہے۔ تَحَفَّظَ بہ: کو یاد کرنے کی تکلیف دیا جانا۔ ـــ عنہ و منہ: سے بچنا، احتراز کرنا۔ اِحتَفَظَ بہ: کو یاد کرنا۔ ـــ الشیءَ و بالشیء لنفسہ: کو اپنے لئے مخصوص کرنا۔ اِستَحفَظَ ہ مالاً: کو مال کی حفاظت کے لئے کہنا۔ ـــ ہُ سرًّا: سے بھید کی حفاظت کرنے کی درخواست کرنا۔ الحافِظ جمع حُفَّاظ و حَفَظَۃ و حَافِظُون (فا): کسی چیز کا ذمہ دار۔ (کہا جاتا ہے: رجلٌ حافِظُ العین: وہ شخص جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو)۔ واضح سیدھا راستہ جس کے نشان نہ مٹے ہوں (کہا جاتا ہے: طریقٌ حافِظٌ: واضح راستہ جو ختم نہ ہو)۔ ـــ من الملائکۃ: اعمال نامے لکھنے والا فرشتہ۔ الحَفِیظ: محفوظ۔ ـــ من الملائکۃ: اعمال نامے لکھنے والا فرشتہ۔ الحِفظَۃ: لائق حفاظت شے کے لئے جذبہ حمیت۔ الحَفِیظَۃ جمع حَفَائِظ: محارم کی حفاظت، جذبہ حمیت، بچوں کی حفاظت کا تعویذ۔ اھل الحَفَائِظ: محارم کی نگہبانی کرنے والے۔ المُحَافِظ: حاکم، گورنر، غیبت اور حق صحبت کی حفاظت کرنے والا۔ مُحافِظ البَلَد: محافظ شہر۔ المِحفَظَۃ: بٹوا۔

۲۔ حَفِظَ - حَفظًا الکتابَ: کتاب کو زبانی یاد کرنا۔ حَفَّظَ ہُ الکتابَ: کو کتاب زبانی یاد کرانا، از بر کرانا۔ تَحَفَّظَ الکتابَ: کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا۔ الحِفظ (مص): یاد، ہوشیاری۔ الحافِظَۃ: قوت حافظہ، یاد کرنے کی طاقت۔

۳۔ أحفَظَ ہُ فاحتَفَظَ: کو غصہ دلانا تو اس کا غضبناک ہونا۔ الحِفظَۃ و الحَفِیظۃ: غضب، غصہ۔ المُحفِظَۃ جمع مُحفِظَات: غصہ کا محرک کام۔ المُحفِظَات: مصیبتیں۔

○ حَفِظَ - حِفظاً ہ: کو محفوظ کرنا، کی حفاظت کرنا۔ ـــ ہ: کو بچانا، محفوظ رکھنا، پناہ دینا، کی حفاظت کرنا، پاسبانی کرنا، کا بچاؤ کرنا، کی دستگیری کرنا، کا دفاع کرنا۔ ـــ ہ: کا پاس کرنا، مشاہدہ کرنا، کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، پر عمل کرنا، کا خیال رکھنا، کو اصلی حالت میں رکھنا، برقرار رکھنا، اسی طرح جاری رکھنا، کو

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سنبھالے رکھنا، رہنے دینا، کی تائید کرنا، حفاظت کرنا، کو محفوظ کرنا، بچا کر رکھنا، پس انداز کرنا، سنبھال کر رکھنا، مستقبل کے طمع لئے جمع کرنا، بچائے رکھنا، کو یاد رکھنا، زبانی یاد کرنا۔ لنفسه ه: اپنے لئے کسی چیز کو مخصوص کرنا۔ ـــ التحقيق: عدالتی تحقیق کو روکنا، معطل کرنا۔ حفظه اللّٰه: اللہ تعالیٰ اسے حفظ و اماں میں رکھے! حفظ بالبريد ه: کو ڈاکخانہ کی معرفت بھیجنا تا کہ مُرسَل آ کر وصول کر لے۔ يُحْفَظُ في البوسطة: ڈاکخانہ کی معرفت ارسال شدہ چیز جو مُرسَل اليه وہاں جا کر وصول کرے۔ حفظ الوَفاءَ لِ: کا وفادار ہونا، سے قول نبھانا، وعدہ پورا کرنا۔ حفظ ہ ه: کو کوئی چیز زبانی یاد کرانا۔ حَافَظَ على: کو محفوظ کرنا، برقرار رکھنا، کو سنبھالے رکھنا، اسی طرح جاری رکھنا، قائم رکھنا، کی نگرانی کرنا، پر تسلط قائم رکھنا، کو قابو میں رکھنا، پر کنٹرول کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی حفاظت کرنا، کے بارے میں محتاط ہونا، کی نگہداشت کرنا، کا خیال رکھنا، کی دیکھ بھال کرنا، کو ذہن میں رکھنا، پر عمل کرنا، کو اختیار کرنا، پر توجہ دینا۔ ـــ على / عن / ه: کی حفاظت کرنا، پاسبانی کرنا، کا بچاؤ کرنا، کا دفاع کرنا۔ أَحْفَظَ ه: کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، دق کرنا، کو تکلیف پہنچانا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ تَحَفَّظَ ب: کو برقرار رکھنا، کو محفوظ کرنا، کو اسی طرح جاری رکھنا، قائم رکھنا، کو ذہن میں رکھنا، کا خیال رکھنا، کے متعلق ہونا۔ ـ: محتاط ہونا، ہوشیار ہونا، چوکنا ہونا، ہوشیار ہونا، الگ ہونا، علیحدہ ہونا، کم آمیز ہونا، پیچھے پیچھے رہنا، تحفظات رکھنا، شکوک و شبہات رکھنا۔ احتفظ ه/ب: کو برقرار رکھنا، بحال رکھنا، کی تائید و حمایت کرنا، کی حفاظت کرنا، کی حفاظت یا نگرانی سنبھالنا۔ ـــ ب: کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا۔ ـــ ب: (قبضہ) برقرار رکھنا، کسی چیز کو محفوظ کرنا، جاری رکھنا، برقرار رکھنا، رہنے دینا۔ ـــ ب: پر قابض ہونا، کا مالک ہونا، کو رکھنا، کو محفوظ رکھنا، کو صندوق وغیرہ میں رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو رکھنا، رہنے دینا۔ احتفظ لنفسه ه/ب: کو اپنے لئے رکھنا، مخصوص کرنا۔ ـــ ه: کا مکمل قبضہ لینا۔ اِسْتَحْفَظَ ہ ه/على: سے کی حفاظت کیلئے کہنا، کے سپرد کچھ کرنا، ـ ه/على ہ: کو کی ذمہ داری میں دینا۔ حِفظ: حفاظت، برقرار رکھنا، قائم رکھنا، جاری رکھنا، نگرانی، تحفظ، بچاؤ، دفاع، پاسبانی، گودام میں رکھنا، قبضہ رکھنا، بجا آوری، تعمیل، یاد کرنا، ازبر کرنا، حافظہ، یاد، قوت حافظہ، قانونی کارروائی یا عدالتی تحقیق کا تعطل، التواء، رک جانا، جاری نہ رہنا۔ حِفظُ الآثار: قدیم یادگاروں کی حفاظت۔ حفظُ الصحة: حفظان صحت، صحت و صفائی۔ رجالُ الحفظ: پولیس۔ حِفْظَة: غصہ، ناراضگی، خفگی، بغض، کینہ، عناد۔ حِفاظ جمع حِفاظات: بند، پٹی، مرہم پٹی۔ حِفاظ الحيض: ایام حیض میں استعمال کا تولیہ یا گدی۔ حفيظ: متوجہ، چوکس، ہوشیار، آگاہ، محتاط، لحاظ کرنے والا، ـــ على: کو محفوظ کرنے والا، کی پاسبانی کرنے والا، رکھنے والا۔ حَفِيْظَة جمع حَفَائِظ: بغض، کینہ، عناد، ناراضگی، خفگی، غصہ۔ مِحْفَظة و مَحَفَظَة جمع محفظات و مَحَافِظ: فولڈر بیگ، جزدان، تھیلہ، بستہ، دستی بیگ، بریف کیس، ڈسپیچ کیس، چمڑے کا بیگ، قلمدان وزارت، سفری تھیلہ، اوزار رکھنے کا تھیلہ، بٹوا، پاکٹ بک۔ مِحْفَظة: کیپسول (capsule)۔ تحفيظ: یاد کرنے کی مشق۔ تحفيظ القرآن: قرآن مجید کی دلنشینی۔ مُحافظة من: مصیبت سے بچاؤ۔ مُحافَظَة: قلعہ یا شہر کی حفاظتی فوج (garrison)، جمع مُحَافظات: ڈویژن (مصر میں پانچ انتظامی ڈویژن ہیں)، دفتر محافظ یعنی کمشنر، صوبہ (نام میں)، قدامت پسندی، قدامت پسند رویہ۔ مذهبُ المحافظة: قدامت پسند تحریک، قدامت پسندی، رجعت پسندی (Torryism)۔ تحفظ جمع تحفظات: احتیاط، احتیاطی تدبیر، شرط، قید۔ مَعَ التحفظ: کامل وجوہ کے ساتھ۔ تَحَفُّظِيّ: احتیاطی۔ اِجْراءات تحفظية: احتیاطی تدابیر۔ صُلْحٌ تحفظي: عمل سے قبل تسویہ، احتیاطی تسویہ۔ حافِظ: محافظ، نگہبان، نگران، سرپرست، داروغہ، رکھوالا جمع حُفَّاظ و حَفَظَة: قرآن مجید کا حافظ۔ حافظة: یادداشت، حافظہ، جمع حَوَافِظ: بٹوا، پاکٹ بک، منی آرڈر۔ مَحْفُوظات: مربہ جات، ڈبے میں بند چیزیں، تاریخی دستاویزات، زبانی یاد کیا ہوا مواد، جسے لوگ دل میں محفوظ کئے ہوں۔ دار المحفوظات المصرية: مصر کا پبلک ریکارڈ کا دفتر۔ ماكولات مَحْفُوظة: ڈبو میں بند کھانے کی اشیاء۔ جميع الحقوق محفوظة: تمام حقوق محفوظ ہیں۔ مُحَافِظ: نگرانی کا، کنٹرول کا، قدامت پسند۔ (المحافظون: برطانیہ کی سیاسی قدامت پسند جماعت کے ارکان)۔ محافظ، نگہبان، نگران، داروغہ، رکھوالا، سرپرست، سپروائزر، سپرنٹنڈنٹ، میئر، گورنر، ڈائریکٹر جنرل، صدر۔ مُتَحَفِّظ: چوکنا، چوکس، ہوشیار، محتاط، کم گو، کم آمیز، الگ، علیحدہ، متین، سنجیدہ، باوقار۔ مُسْتَحْفَظ جمع مُسْتَحْفَظَات: محفوظ (فوج)۔

حفل: ١۔ حَفَلَ ـ حَفْلاً و حُفُولاً و حَفِيلاً الماءُ: پانی کا بکثرت جمع ہونا۔ ـ الوادیْ بالسيل: وادی کا سیلاب سے کناروں تک بھر جانا۔ ـت السماءُ: آسمان کا زیادہ بارش برسانا۔ ـ الدمعُ: آنسو کا کثرت سے ہونا۔ ـ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ حَفَّلَ ہُ: کو احتیاط سے اکٹھا کرنا۔ ـ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا بند کر دینا تا کہ اس کے تھنوں میں دودھ جمع ہو جائے۔ تَحَفَّلَ اللبنُ: دودھ کا جمع ہو جانا۔ ـ المجلسُ: مجلس کا لوگوں سے بھر جانا۔ اِحْتَفَلَ الوادی بالسَيلِ: وادی کا سیلاب سے کناروں تک بھر جانا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ ـ المجلسُ بالناس: مجلس کا لوگوں سے بھر جانا۔ اِحْتَفَلُوا به: کی تعظیم و تکریم کے لئے لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ حَافِلٌ جمع حُفَّل و حَوَافِل (فا): کہا جاتا ہے: جمعٌ حافِلٌ: بڑی جماعت۔ ضرعٌ حافِلٌ: دودھ سے بھرا ہوا تھن۔ وادٍ حافِلٌ: سیلاب سے بھری ہوئی وادی۔ ناقةٌ او شاةٌ حافِلٌ: بہت دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ دارٌ حافِلةٌ: افراد خانہ سے خوب بھرا ہوا گھر۔ سُوقٌ حافِلةٌ: بھرا ہوا بازار۔ الحافِلة الكهربائية: برقی ٹرین کا ڈبہ۔ الحَفْل (مص): جماعت، گروہ، کہا جاتا ہے: عنده حفلٌ من الناس: اس کے پاس لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ جمعٌ حَفْلٌ: بڑا گروہ۔ الحَفِيل: بہت، کثیر، جیسے جمع حفيل: بڑی جماعت اور مکانٌ حفيل: بھری ہوئی جگہ۔ الحُفَال: بڑی جماعت، بہت جمع شدہ دودھ۔ الحَفْلة: اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے: حفلة خطابية و حفلة تكريمية و حفلة غنائية: تقریری جلسہ، کسی اعزاز میں دی گئی پارٹی، نغمہ و سرور کا جلسہ، سرود منڈلی۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا بحفلتهم و بحفيلتهم: وہ سب کے سب آئے۔ الحَفَلَى: دعوتِ عام۔ المَحْفِل جمع مَحَافِل: مجلس، جمع ہونے کی جگہ۔ المُحْتَفَل: جمع ہونے کی جگہ۔ مُحْتَفَلُ الأمر: معاملہ کا بڑا حصہ۔

٢۔ حَفَلَ ـِ حَفْلاً و حُفُولاً و حَفِيلاً الشيءَ: کو صیقل کرنا۔ حَفَّلَ الشيءَ: کو صیقل کرنا۔ اِحْتَفَلَ الطريقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ ـ الشيءُ: روشن ہونا۔

٣۔ حَفَلَ ـِ حَفْلاً و حُفُولاً و حَفِيلاً: پرواہ کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کہا جاتا ہے: ما حفله و ما حَفَلَ به: اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ حَفَّلَ ہُ: کو مزین کرنا، سجانا۔ تَحَفَّلَ: مزین ہونا۔ اِحْتَفَلَ: پرواہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ما اِحْتَفَلَ به: اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ــ بالامر: کو حسن انتظام سے کرنا۔ ــ فی الامر: میں مبالغہ کرنا۔ الحفیل: مبالغہ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ حفیلٌ: ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا، بعض کے نزدیک سخت جدوجہد کرنے والا۔ الحَفْلة: اسم مرّة۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَ للامر حَفْلَتَهُ: اس نے کام میں کوشش کی۔

۴۔ الحُفَالَة: ہر چیز کا ردّی حصہ، رذیل لوگ۔ حُفَالَةُ الطعامِ: جو چیز کھانے میں سے نکال کر پھینک دی جائے۔ ــ اللبنِ: جھاگ۔

۞ حَفَلَ ـ حَفْلاً: جمع ہونا، اکٹھا ہونا، افراط سے بہنا۔ ــ ب: سے بھرا ہونا، معمور ہونا، کی کثرت سے ہونا۔ ــ ب/ل: کی طرف توجہ کرنا، پر توجہ کرنا، سے دلچسپی لینا، کو بڑی اہمیت دینا، کی قدر کرنا، کو اہم سمجھنا۔ لاحَفَلَ به: غیر جانبدار، نہ حامی نہ مخالف۔ غیر اہم۔ حَفَّلَ ہ ب: کو سے آراستہ کرنا، سجانا، کی سے آرائش کرنا، کا سے سنگار کرنا، کو سے مزین کرنا، کی سے زیبائش کرنا، کو سے خوبصورت یا خوشنما بنانا۔ اِحْتَفَلَ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ ــ ب: کی تعریف کرنا، کا جشن منانا، ــ ب/ل: سے دلچسپی لینا، میں مصروف ہونا، پر توجہ کرنا، کی طرف توجہ کرنا، پر توجہ یا سعی مرکوز کرنا۔ ــ ب: کی تکریم کرنا، کو خوش آمدید کہنا، کا مہربانی سے استقبال کرنا۔ حَفْل: اجتماع، بھیڑ، شو، پروگرام، عوامی کھیل، تقریب، دعوت، ضیافت، جشن۔ حَفْلَة جمع حفلات: اجتماع، پارٹی، (سماجی یا عوامی) کھیل، شو، پروگرام (سینما، تھیٹر کا)، نغمہ و سرور کا جلسہ، جشن، میلہ، تقریب، تہوار، مسرت کا موقعہ۔ حفلة التابین: مرنے والے کی یاد کی تقریب۔ حفلة دینیة: مذہبی تقریب، عیسائیوں کی نماز با جماعت۔ الحفلة الاُولَی: پریمیئر شو (premiere)۔ حفلة حَافِلة: بڑا اجتماع۔ حفلة خَیرِیَّة: چیرٹی پروگرام۔ حفلة الدفن: تقریب تدفین، دعا۔ حفلة ساهرة یا حفلةُ سَمَر: شام کی پارٹی، محفل شب۔ حفلة سینمائیة: فلمی شو۔ حفلةُ الشای: ٹی پارٹی۔ حفلةُ العُرس: تقریب شادی۔ حفلة الإستقبال: (عوامی) استقبالیہ۔ حفلة موسیقیة: نغمہ و سرود کا جلسہ۔ حفیل: سرگرم، محنتی، مستعد۔ مَحْفِل جمع مَحَافِل: مجلس، اجتماع، جماعت، اجلاس، پارٹی، حلقہ، جسم، اجتماع کل، محفل ماسونی، فری میسن کی جلسہ گاہ۔ المحَافِل الرسمیة (السیاسیة): سرکاری (سیاسی) حلقے۔ اِحتِفَال جمع احتفالات: تقریب، جشن، میلہ، خوشی کی تقریب۔ حافِلٌ ب: سے پر، بھرا ہوا۔ حافِل: بالافراط، وافر، لبریز، کثیر، کھچا کھچ بھرا ہوا، بکثرت، رسمی، پرتکلف، شاندار، پر رعب، پرمسرت۔ حَافِلة جمع حافِلات وَ حَوَافِل: آٹو بس۔ المحتفلون: کسی تقریب میں شرکت کرنے والے۔ محتَفَل: جمع ہونے کی جگہ، پارٹی۔ مُحتَفَل به: جسے منایا گیا ہو، جس کا جشن منایا گیا ہو۔

حفن: ۱۔ حَفَنَ ـ حَفْنًا لهُ: کو لپ بھر دینا۔ ــ الشیءَ: کو لپ بھر لینا۔ اِحْتَفَنَ الرجلَ: کو دونوں ہاتھ اس کے زانو کے نیچے ڈال کر اٹھانا۔ الحَفْنَة و الحُفْنَة جمع حُفَن: مٹھی بھر، لپ کی مقدار۔ لپ بھر۔

۲۔ اِحْتَفَنَ الشجرةَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔

۳۔ اِحتفنَ الشیءَ لنفسه: کو اپنے لئے لینا۔ ــ من الشیءِ: کو بہت لے لینا۔

۴۔ الحُفْنَة جمع حُفَن: گڑھا۔

۞ حَفَنَ ـ حَفْنًا ہ: کو دونوں ہاتھوں سے نکالنا۔ ــ ل: کو تھوڑا سا دینا۔

حفا: ۱۔ حَفَا ـ حَفْواً فلانًا: کو دینا۔ ــ ہُ من الشیءِ: کو سے روکنا، منع کرنا، ــ ہُ اللّٰهُ به: اللہ تعالیٰ کا کسی کو عزت دینا۔ حَفِیَ ـ حَفًا و حِفَایَةً و حِفَاوَةً و حَفَاوَةً و تِحْفَایَةً به: کا بہت اعزاز کرنا اور اس کے متعلق بہت خوشی کا اظہار کرنا۔ ــ حَفَاوَةً و أَحْفَی الیه فی الوصیة: کے متعلق وصیت میں مبالغہ کرنا۔ تَحَفَّی لهٗ: کی بہت عزت کرنا۔ اِحْتَفَی به: کا بہت اعزاز کرنا اور سے خوشی کا اظہار کرنا۔ الحَفِیّ جمع حُفَوَاء: عزت و اکرام اور اظہار خوشی میں مبالغہ کرنے والا۔

۲۔ حَفَا ـ حَفْوًا البرقُ: بادل کے اطراف میں بجلی کا ہلکے سے چمکنا۔

۳۔ حَفَا ـ حَفْوًا شارِبَهٗ: مونچھوں کو خوب اچھی طرح کترنا۔ حَفِیَ ـ حَفاً: زیادہ چلنے سے پاؤں کا گھس جانا، ننگے پاؤں چلنا۔ صفت: حَفٍ و حَافٍ جمع حُفَاة۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا گھسے ہوئے کھر والا ہونا۔ أَحْفَی الرجلُ: گھسے ہوئے [illegible] جانور کا مالک [illegible] مونچھیں کترنے میں مبالغہ سے کام لینا۔ اِحْتَفَی: ننگے پاؤں چلنا، جوتے اتارنا۔ ــ القومُ المرعَی: چراگاہ میں کچھ نہ چھوڑنا۔ ــ البقلَ: سبزی کو اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے انگلیوں کے پوروں سے اکھیڑنا۔ الحَفَاء: کھر یا پاؤں کی گھسائی۔ الحِفایَة و الحُفْوَة و الحِفیَة: بمعنی الحفاء۔

۴۔ حَفِیَ ـ حَفًا عنه: کی حالت بہت پوچھنا۔ اَحْفَی اِحْفَاءً السؤال: سوال کو بار بار دہرانا۔ ــ ہُ: سے اصرار کرنا، کو خبر معلوم کرنے پر اُکسانا۔ اِسْتَحْفَی ہُ عن کذا: کسی شخص سے کسی چیز کے متعلق مبالغہ سے دریافت کرنا۔ الحَفِیّ جمع حُفَوَاء: کسی کا حال معلوم کرنے کے لئے سوال بہت کرنے والا، سوال پر اصرار کرنے والا، کسی چیز کے متعلق پورا پورا علم رکھنے والا۔

۵۔ حَافَی مُحَافَاةً ہُ: سے گفتگو میں جھگڑنا۔ تَحَافَیا اِلی السلطان: فیصلہ کے لئے بادشاہ کے پاس جانا۔

۶۔ اَحْفَی اِحْفَاءً به: پر عیب لگانا۔

۷۔ تَحَفَّی فی الشیء: میں بہت کوشش کرنا۔

حفی: دیکھو حَفَا۔

۞ حَفِیَ ـ حَفَاوَة ب: کا مہربانی اور مہمان نوازی سے استقبال کرنا، کو خوش آمدید کہنا، کا اعزاز کے ساتھ استقبال کرنا، کی عزت و اکرام کرنا۔ تَحَفَّیٰ ب: سے محبت کا برتاؤ کرنا، سے پیار کرنا۔ اِحتفی ب: بمعنی تَحَفَّی ب: نیز احتفی ب: (کوئی موقع، تہوار وغیرہ) منانا۔ حَفِیٌّ ب: کو خوش آمدید کہنے والا، کا مہربانی سے استقبال کرنے والا، کا خیر مقدم کرنے والا۔ حَفَاوَة ب: کسی کا دوستانہ استقبال، کو خوش آمدید کہنا، کو سلام کرنا، آداب و تسلیمات کہنا۔ اِحْتِفَاء ب: کا استقبال، کو خوش آمدید کہنا، آداب و تسلیمات کہنا۔ اِحتفاء: جشن، تقریب، میلہ، چہل پہل۔ حَفِیَ ـ حَفَاءً: ننگے پاؤں چلنا، سوجے ہوئے پاؤں والا ہونا۔ حَافٍ جمع حُفَاة: ننگے پاؤں (چلنے والا)۔

حقّ: ۱۔ حَقَّ ـ حَقًّا ہُ: پر حق میں غالب آنا۔ حَاقَّ مُحَاقًّا و حِقَاقًا ہُ فی الامر: سے کسی معاملہ میں جھگڑا کر کے اپنی حقداری کا مدعی ہونا۔ کہا جاتا ہے: ان له کذا و کذا لا یُحَاقُّهٗ فیه احدٌ: اس کے لئے ایسا ایسا ہے، کوئی اس میں اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اَحَقَّ: حق کہنا۔ ــ ہُ: پر حق میں غالب آنا۔ تَحَاقَّا: حق کے لئے ایک دوسرے سے جھگڑنا اور فیصلہ کے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لئے جانا۔اِحْتَقَّ القومُ: ہرایک کا یہ کہنا کہ میرے پاس حق ہے۔الحَقّ جمع حُقُوق (مص): سچائی۔(کہا جاتا ہے:لَحَقُّ لا آتیك: بغیر تنوین یعنی قسم ہے حق اللہ کی میں تمہارے پاس نہیں آوں گا۔ حَقًّا لا آتیك: بلالام مع تنوین: مندرجہ بالا معنی میں)،انصاف،مال،ملک،حصہ،نصیب۔الحق المدنی: دیوانی مجموعہ قوانین۔۔القانونی (عند المسیحین): ضابطہ قوانین کلیسائی۔حُقُوق الدار: گھر کے لوازمات، الحَقَّة: مخصوص حق۔آپ کہتے ہیں:هذه حَقَّتي: یہ میرا مخصوص حق ہے۔الحَاقَة: قیامت۔الحقیقة جمع حَقَائِق: حقیقت۔الحَقَّانِيّ: حق کی طرف منسوب۔

٢۔حَقَّ ـ حَقًّا و حَقَّةً الامرُ: ثابت ہونا،واجب ہونا۔ــ ـ حَقًّا الامرَ: کو ثابت کرنا،واجب کرنا۔ ـ حَقًّا علیه ان یفعل کذا: پر کچھ کرنا واجب ہونا۔کہا جاتا ہے:حُقَّ لك أن تفعل كذا و حَقِقْتَ أن تفعل كذا: ایسا کرنا تمہارے لئے سزاوار ہے اور تم اس کے کرنے کے لائق ہو۔ حَقَّقَ هُ: کی تاکید کرنا،کو واجب کرنا۔اَحَقَّ الامرَ: کو واجب کرنا اور حق ثابت کرنا۔کہا جاتا ہے: اَحَقَّ علیه القضاءَ: اس نے قضا کو اس کے ذمے واجب کیا۔تَحَقَّقَ الخبرُ: خبر کا پایہ ثبوت کو پہنچنا۔اِسْتَحَقَّ هُ: کو ضروری اور واجب قرار دینا، کا مستحق ہونا،کے شایان ہونا۔ــ الرجلُ: گناہ کر کے مستحق سزا ہونا۔ــ الدینُ: قرض کی ادائیگی کا وقت قریب آپہنچنا۔الحَقّ جمع حُقُوق (مص): ثابت شدہ،فیصل شدہ معاملہ،استقلال،ثابت قدمی، لائق۔کہا جاتا ہے:هو حَقٌّ بكذا: وہ اس کے لائق ہے۔الحِقّ من الابل: چوتھے سال والا اونٹ یا اونٹنی،وجہ تسمیہ اونٹ کا اس عمر میں باربرداری کے قابل ہو جانا ہے۔الحُقَّة جمع حُقّ و حُقَق و حِقَاق: عورت۔الحِقَّة: حق،واجب۔ الأحَقّ: اختصاص،بلاشرکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے:زیدٌ اَحَقُّ بماله: زید کے علاوہ اس کے مال میں کسی اور کا کوئی حق نہیں۔٢۔ افعل التفضیل کے معنی میں،جیسے آپ کا یہ کہنا:هو احق من فلان: حق تو دونوں کو پہنچتا ہے مگر وہ فلاں شخص سے زیادہ حق دار ہے۔الحَقِیق جمع اَحِقَّاء: لائق،سزاوار۔کہا جاتا ہے:هو حقیقٌ بكذا و حقیقٌ اَن یفعل كذا: وہ اس کے لائق ہے اور وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔الحقیقة جمع حَقَائِق: واجب الحمایت چیز۔کہا جاتا ہے:هو حامي الحقیقة و هو من حماةِ الحقائق: وہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جس کا دفاع اس کے لئے لازمی ہے۔المَحْقُوق (مفع): لائق،قابل،سزاوار۔کہا جاتا ہے:هو مَحْقُوقٌ بكذا او محقوقٌ أن یفعل كذا: وہ اس کے لائق ہے اور وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔

٣۔حَقَّ ـ حَقًّا الخبرَ: خبر کی حقیقت سے واقف ہو جانا۔حَقَّقَ القولَ او الظنَّ: کسی قول یا گمان کی تصدیق کرنا۔تَحَقَّقَ الرجلُ الامرَ: مرد کا کسی امر کا یقین کرنا۔الحَقّ جمع حُقُوق (مص): یقین۔الحَقَّة: حقیقت امر۔آپ کہتے ہیں: وقفت علی حقة ذلك الامر: میں اس امر کی حقیقت تک پہنچا۔الحَقِیْقَة جمع حَقَائِق: حقیقت،مجاز کا الٹ۔حقیقةُ الشی: چیز کا منتہا اور اس کی اصل۔

٤۔حَقَّ ـ حَقًّا العُقْدَةَ: گرہ باندھنا۔ــ الرباطُ: فیتہ بندھنا۔

٥۔حَقَّ ـ حَقًّا الرجلَ: کے وسط سر یا مونڈھے کے گڑھے پر مارنا۔ــ الطریقَ: راستہ کے وسط میں چلنا۔الحُقّ جمع حِقَاق (ع ا): مونڈھے کے سرے کا گڑھا،بازو کے اوپر کا حصہ۔الحاق (فا): وسط،درمیان۔کہا جاتا ہے:سقط علی حاق رأسِهِ و جئتُهُ في حاقِ الشتاء و رکب حاقَّ الطریق: وہ اس کے سر کے وسط پر گرا، میں اس کے پاس وسط سرما میں آیا اور وہ راستہ کے درمیان میں چلا۔

٦۔حَقَّ ـ حَقَّاتِ الحاجةُ: ضرورت کا سخت ہونا۔ اِحْتَقَّ هُ اِلی کذا: اس پر تنگی ڈالنا۔الحاق (فا): کہا جاتا ہے:اخذني حاقُّ الجوعِ: مجھ کو سچی بھوک لگی۔الحُقَّة جمع حُقّ و حُقَق و حِقَاق: مصیبت۔الحَقَّة: مصیبت۔الحاقّة: الحاق کا مونث،آفت۔

٧۔حَقَّ ـ حَقَقًا الفرسُ: دوڑنے میں گھوڑے کا اگلی ٹانگوں کی جگہ پچھلے پاؤں رکھنا صفت:اَحَقّ۔

٨۔أحَقَّ الرَمِیَّةَ: شکار کو تیراندازی کے وقت ہی مار ڈالنا۔اِحْتَقَّت الطعنةُ به: حملہ کا شکار کو فوراً قتل کر دینا۔

٩۔اِحْتَقَّ ه الی کذا: کو تک موخر کرنا۔

١٠۔اِحْتَقَّ الفرسُ: گھوڑے کا دبلا ہونا۔ــ و [illegible]

١١۔الحُقّ جمع حِقَاق: زمین کا گول ٹکڑا یا پست زمین، (ع ا) سرین کا سرا،مکڑی کا جالا۔حُقُّ الطیب: خوشبو کی ڈبیہ۔الحَقّ جمع حُقُوق: موت۔ الحِقّ: اونٹنی جس کے دانت بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے ہوں۔الحُقَّة جمع حُقّ و حُقَق و حِقَاق: چھوٹا برتن۔الحَاق و الحَاقَّة: کسی بات میں کامل۔کہا جاتا ہے:رجلٌ شجاعٌ حاقُّ الشجاع: بہادری میں کامل مرد۔رجلٌ حاقَّةُ الرجل: مردانگی میں کامل مرد۔الحقیق جمع اَحِقَّاء علی الشیء: کا حریص،لالچی۔مُحَقَّق: مضبوط۔کہا جاتا ہے:کلامٌ محققٌ: مضبوط و منظم کلام۔ثوبٌ مُحَقَّقٌ: مضبوط بناوٹ کا کپڑا۔

○ حَقَّ ـ: سچ ہونا،سچ ثابت ہونا،مصدق ہونا،صحیح ہونا۔ حُقَّ علی: کے لئے ضروری،لازمی،مطلوبہ یا اشد ضروری ہونا،پر لازم،واجب یا فرض ہونا،کے لئے کافی،مناسب،موزوں،صحیح،برجستہ،برمحل ہونا،کے مطابق ہونا۔ــ ل: کے لئے موزوں ہونا۔یحق له: وہ اس کا مستحق ہے،اس پر اس کا حق ہے۔حق علیه: وہ اس کا (سزا کا) مستوجب ہے۔ـ ـ ه: کی تحقیق کرنا،کا پتہ چلانا،کے بارے میں تسلی کر لینا،کا یقین رکھنا۔ــ ه: کو شناخت کرنا،پہچاننا،پہچان لینا۔حَقّقَ ه: کو سچا کر دکھانا۔ــ ه: امید وغیرہ حاصل کرنا،پالینا۔ــ ه: (خواہش وغیرہ) پوری کرنا۔ــ ه: کو عمل میں لانا،پورا کرنا،کمال تک پہنچانا،پایہ تکمیل کو پہنچانا،کی تکمیل کرنا،کو مکمل کرنا، جامہ عمل پہنانا۔ــ ه: معاہدہ وغیرہ کو عمل میں لانا،یا اسے جامہ عمل پہنانا۔ــ ه: نتائج پیدا کرنا،پر منتج ہونا۔ــ ه: کو معین کرنا،کی تعیین کرنا،کی تحقیق کرنا، کا پتہ چلانا،کو ٹھیک ٹھیک واضح کرنا،کی نشاندہی کرنا۔ ــ ه: کو سچا ثابت کرنا،کی تصدیق کرنا،توثیق کرنا،کو حقیق ثابت کرنا،کو مسلمہ قرار دینا،کو وثوق سے کہنا، دعوی سے کہنا،کو حق جتانا،کو حتمی طور پر بیان کرنا،کو تسلیم کرنا۔ــ ه: کو صحیح طور پر کرنا،کو کرنے میں محتاط ہونا، باریک بین ہونا محتاط ہونا۔حَقَّقَ النظرَ: غور سے دیکھنا۔ــ ه: کا گہرا مطالعہ کرنا،کی تحقیق کرنا،کا بغور مشاہدہ کرنا۔ــ ه: کی تحقیقات کرنا۔ــ ه/في: کی جانچ پڑتال کرنا،کا جائزہ لینا۔ــ في: کی تحقیقات کرنا،پر عدالت کا تحقیقات شروع کرنا۔ــ مع: سے پوچھ گچھ کرنا،عدالت کا کسی کے خلاف مقدمے کی سماعت کرنا۔حَاقَّ ه: کے ساتھ حق کے لئے جھگڑنا،کے خلاف حق کے لئے مقدمہ کرنا یا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مقدمہ بازی پر اتر آنا۔ اَحَقَّ: سچ کہنا۔ ـــ فی: میں حق پر ہونا۔ ـــ ہ: قانونی دعویٰ وغیرہ پر اصرار کرنا۔ تَحَقَّقَ: سچ ثابت ہونا، سچ نکلنا، تصدیق ہونا، صحیح ثابت ہونا، حقیقت ہو جانا، حقیقت بننا، عمل میں آنا، جامۂ عمل پہننا، پورا ہونا، وصول ہونا، پڑتال کیا جانا، چھان بین کیا جانا، کھوج لگنا۔ ـــ ہ/من: کی تحقیق کرنا، کو معلوم کرنا۔ ـــ ہ: کے متعلق تسلی کر لینا، اطمینان کرنا، یقین کرنا، قائل ہونا، پُریقین ہونا۔ ـــ ب: کے بارے میں سنجیدہ ہونا۔ اِسْتَحَقَّ ہ: کا مستحق ہونا، کا دعویدار ہونا، کا دعویٰ کرنا، کا حق دار ہونا، سزاوار ہونا، مستوجب ہونا، کا مطالبہ کرنا، کی ضرورت پیدا کرنا، کو مطلوبہ بنانا۔ ـــ: (رقم وغیرہ کا) واجب الادا ہونا۔ ـــ (نوٹ کا) متوقع ہونا، پوری طرح تیار ہونا۔ یستحق الذکرَ: قابل ذکر۔ لایستحق علیه الرسم: فیس سے مستثنیٰ، مفت، بلا معاوضہ۔ حَقّ: حق، سچائی، درستی، راستی، شرعی قبضہ، جائداد، واجب الادا، واجب، مناسب طریقہ، سچا، تحقیق شدہ، مصدقہ، مستند، حقیقی، حق، منصفانہ، معقول، صحیح، درست، قوی، مضبوط، دانشمندانہ، قانونی، ضابطہ کے مطابق، قانوناً مکمل۔ الحقّ: اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام جمع حقوق: حقٌّ فی: پر یا میں حق، حق استحقاق، دعویٰ، قانونی دعویٰ۔ الحقوق: قانون، علمِ قانون، اصولِ قانون، اصول فقہ، قانونی مہارت، قانون دانی۔ حَقًّا: واقعی، درحقیقت، عملاً واقعہ یہ ہے، حقیقتاً، فی الحقیقت، دراصل، فی الواقع، خلوص سے، راستی سے، انصاف سے، جائز طور پر، بجا طور پر، واجباً، جوازاً، قانوناً، واجبی طور پر۔ بِالحقِّ: درحقیقت، دراصل، فی الواقع، ٹھیک یا مناسب طریق سے۔ بِحقِّ اور فی حَقِّ: جہاں تک اس کا تعلق ہے، کی بابت، کے متعلق، کے بارے میں، کے باب میں۔ هو علی حق: وہ حق پر ہے: وہ سچا ہے۔ الحق مَعَكَ: تم سچے ہو۔ الحقُّ عَلَيكَ: تم غلطی پر ہو۔ هو حقٌّ علیك: یہ تمہارا فرض ہے۔ هذا حقي علیکم: تم اس کے میرے مقروض ہو۔ عرفاناً لِحقّها علیه: اس خاتون کے مرہون منت ہونے کے اعتراف میں۔ مِن حَقّه: وہ اس کا مستحق ہے۔ کان من حقه أن: اسے چاہئے تھا کہ۔ لهُ الحقُّ فی: وہ، کا مستحق ہے۔ والحقُّ یُقالُ: کہا جا سکتا ہے کہ، یہ بات تسلیم کرنی چاہئے، یہ کہنا ہی جائز ہے۔ عرف حقَّ المعرفة: اچھی طرح جاننا، یقینی طور پر جاننا۔ فهم حقَّ الفهم: مکمل طور پر آگاہ ہونا، سمجھنا، بالکل سمجھنا، پوری طرح ادراک کرنا۔ السعادة الحقّة: سچی یا حقیقی خوشی۔ كُلِّيَّةُ الحُقوق: لاکالج۔ حُقّ: سوراخ، گڑھا، خلا، جوف، جوڑ کا خانہ۔ حُقّه: جوڑ کا خانہ، سوراخ، گڑھا۔ حُقَّة جمع حُقَق و حِقاق: صندوقچہ، کیس، برتن یا مرتبان، ظرف، جوف، چیز دان (کوئی شے رکھنے کے لئے ڈبہ، بوتل وغیرہ) جمع حُقّات و حُقَق: ایک وزن جسے اُقّہ بھی کہا جاتا ہے۔ اَحَقّ ب: کا زیادہ حق دار، زیادہ مستحق۔ حَقِيق جمع اَحِقّاء ب: کا مستحق کے لائق، کا سزاوار، کے مطابق، کا اہل، کے قابل، لائق، مجاز۔ حَقِيقَة جمع حَقائِق: سچائی، حقیقت، امرِ واقعہ، معاملات کی حقیقی کیفیت، حقائق، سچی طبیعت، جوہر، روح، اصل، حقیقی معنی، صحیح مفہوم۔ حَقِيقَةً: واقعی درحقیقت، دراصل، فی الواقع، واقعہ یہ ہے، سچ مچ۔ رأيته علی حقیقته: میں نے اس کی حقیقی طبیعت دیکھی، میں نے اسے دیکھا جیسا کہ وہ فی الحقیقت ہے۔ فی حقیقة الامر: درحقیقت، فی الواقع: لیس له حقیقة: یہ درحقیقت موجود نہیں، یہ حقیقی نہیں ہے۔ حقيقي: حقیقی، واقعی، اصلی، مناسب، ذاتی، باطنی، ضروری، لازمی، کھرا، مستند، معتبر، قطعی، صریح۔ حُقُوقِي: قانون سے متعلق جمع حقوقیون: ماہر قانون، قانون دان، وکیل۔ اَحَقِّيَة: قانونی دعویٰ، حق، یا استحقاق۔ حَقّانِيّ: صحیح، درست، مناسب، موزوں، جائز، قانونی، ضابطہ کے مطابق۔ حَقّانِيَة: قانون، عدل، انصاف، انصاف پروری، معدلت گستری۔ وزارة الحَقّانية: وزارت انصاف۔ التحقیق أنّ: درحقیقت، یہ یقینی ہے کہ۔ علی التحقیق: فی الواقع، ٹھیک طور پر، معین طور پر، یقیناً، سچی بات تو یہ ہے، درحقیقت، لگی لپٹی رکھے بغیر۔ تحقیق الشخصية: کسی شخص کی شناخت، نشاندہی، شناخت کا ثبوت۔ شهادةُ تحقیق الشخصية: شناختی کارڈ۔ قَلَمُ تحقیق الشخصية: دفتر شناخت۔ تحقیق الذاتية: شناخت، نشاندہی۔ قاضی التحقیق: تفتیشی مجسٹریٹ۔ تحقیقُ الأرباح: منافع کی وصولی (شاک مارکیٹ)۔ اِحقاقاً لِلحق: تاکہ سچائی عام ہو۔ اِستحقاق جمع استحقاقات: اہلیت، قابلیت، سزاواریت، لیاقت، استحقاق، واجب الادا رقم، کرتوت، کردار (جو جزا یا سزا کا مستحق ہو)، پختگی، واجب الادائی، مطالبہ، حق، واجب الادا رقم کی [illegible] استحقاق: مستحق طور پر، انصاف سے، حق کے طور پر۔ بِدُونِ اِستحقاق: بغیر حق کے، بغیر استحقاق۔ تاریخ الاستحقاق: بونڈ وغیرہ کی واجب الادائیگی کی تاریخ۔ مَحْقُوقٌ ب/ل: کے لئے موزوں، کا اہل، مستحق، حقدار۔ مَحْقُوق: غلطی پر، غلط راستہ پر۔ مُحَقِّق: تحقیقات کرنے والا، تفتیشی مجسٹریٹ۔ مُحَقَّق: یقینی، واقعی، قابل اعتبار، پکا یقینی، شک سے بالا، مسلمہ، غیر مشتبہ، تسلیم شدہ۔ مِن المُحَقَّق أن: یہ ایک حقیقت ہے کہ، یہ صحیح ہے کہ۔ مُحِقّ: سچ بولنے یا کہنے والا، حق پر۔ مُتَحَقِّق: یقینی، قطعی، قائل، باور شدہ۔ مُسْتَحِقّ: مستحق، دعویدار، لائق، سزاوار (وقف کی آمدنی) پانے والا۔ مستحقُّ الدفع: واجب الادا رقم۔

حقب: ۱۔ حَقِبَ ـ حَقَباً و اَحْقَبَ المطرُ: بارش کا رک جانا۔ ـ العامُ: سال کا بے بارش والا ہونا (مجاز ہے)۔ ـ المعدنُ: معدن کا ختم ہونا، کان میں کچھ نہ رہنا۔ نائِلُ فلان: کسی کی مہربانی و فضل کا کم یا منقطع ہونا۔

۲۔ حَقِبَ ـ حَقَباً و اَحْقَبَ الامرُ: معاملہ کا خراب ہونا۔

۳۔ اَحْقَبَ ہُ: کو اپنے پیچھے سوار کرنا۔ اِحْتَقَبَ زیداً علی ناقته: زید کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھانا۔ ـــ الاثمَ: گناہ کا مرتکب ہونا۔ و اِسْتَحْقَبَ الشیءَ: کو کجاوا یا پالان کے پیچھے باندھنا، کا ذخیرہ کرنا۔ الحَقَب جمع حُقُب: اونٹ کا تنگ۔ ـ والحِقاب جمع حُقُب: زیور لٹکانے کا عورت کا کمربند۔ الحَقِيبَة جمع حَقائب: سوار کے پیچھے گھوڑے پر بندھنے والی چیز، مسافر کا خوراک وغیرہ رکھنے کا تھیلا۔

۴۔ الحُقْب جمع حِقاب و الحُقُب جمع اَحْقاب و اَحْقُب: اسی سال یا اس سے زائد کا زمانہ، زمانہ، ایک سال یا بہت سے سال۔ الحِقْبَة جمع حِقَب و حُقُوب: مدت، سال۔ الحقَب جمع حُقُب: ناخن کی جڑ کی سفیدی۔ الأَحْقَب مؤنث حَقْباء (ح): گورخر۔

○ اِحْتَقَبَ ہ: کو اپنے تھیلے میں رکھنا، کو تھیلے میں ڈالنا، پر قبضہ کرنا۔ حُقُب جمع احقاب و حِقاب: طویل زمانہ، عرصہ۔ حِقْبَة جمع حِقَب: طویل زمانہ، زمانہ، عرصہ وقت۔ حِقْبَةٌ من الزمان: لمبے عرصہ کیلئے، کچھ وقت کیلئے۔ حِقَب جمع اَحْقاب و حِقاب جمع حُقُب: ایک قسم کی زیبائشی پٹی۔ حَقِيبَة جمع حَقائِب: سوٹ کیس، سفری تھیلہ، چمڑے کا تھیلہ۔ حقيبة دبلوماسية: سفارتی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کیسہ، تھیلی۔ حَقِیبَةُ النُقُود: بٹوا۔ حَقِیبَةُ الیدِ: ہینڈ بیگ، خواتین کا بٹوا یا تھیلا۔

حقد: حَقَدَ - حِقداً و حَقَداً و تَحَقَّدَ علیه: سے یا کے خلاف کینہ و بغض رکھنا صفت: حَاقِد جمع حَقَدَة۔ اَحْقَدَهُ: کو کینہ ور بنانا۔ تَحَاقَدَ القومُ: ایک دوسرے سے کینہ رکھنا۔ اِحْتَقَدَ علی فلان: کے خلاف یا سے کینہ و بغض رکھنا۔ الحِقد جمع اَحْقَاد و حُقُود و الحَقِیدَة جمع حَقَائِد: پوشیدہ دشمنی، غضب، کینہ۔ الحَقُود: بہت کینہ رکھنے والا۔

۲۔ حَقَدَ - حِقداً و حَقَداً و تَحَقَّدَتِ الناقةُ: اونٹنی کا چربی سے بھر جانا۔

۳۔ حَقَدَ - حِقداً و حَقَداً و تَحَقَّدَ المطرُ: بارش کا رک جانا۔ ــ المعدنُ: کان کا ختم ہوجانا یعنی اس میں سے کوئی دھات وغیرہ نہ نکلنا۔ اِحْتَقَدَ المطرُ: بارش کا رک جانا۔

○ حَقِدَ ـ و حَقَدَ - حَقَداً و حِقداً علی: کے خلاف نفرت کے جذبات دل میں رکھنا۔ اَحْقَدَ ہٗ: کو نفرت اور خفگی پر اُکسانا، کو تلخ کرنا، میں زہر بھرنا۔ تَحَقَّدَ: بمعنی حَقِدَ و حَقَدَ۔ تَحَاقَدَ: ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ حِقْد جمع اَحْقَاد و حُقُود: نفرت، بدباطنی، کینہ، بغض، عناد، شر، خفگی۔ حَقُود: نفرت سے بھرا ہوا، کینہ پرور، بُرا ماننے والا، بغض پرور، کینہ جو، بدخواہ، بغض رکھنے والا، کینہ ور۔ حَقَدَة: کینہ ور لوگ، بدخواہ لوگ۔

حقر: حَقِرَ - حَقراً و حَقُرَ ـ حَقَارَةً: ذلیل ہونا، صفت: حَقِیر و حَیْقَر و حَیْقُر۔ حَقَرَ - حَقراً و حُقْرِیَّةً الشیءُ او الرجلُ: کم قدر ہونا، ذلیل ہونا۔ ــ ہٗ: کو ذلیل سمجھنا، حقیر جاننا۔ حَقَّرَ ہٗ: کو ذلیل کرنا، کم قدر کرنا۔ اَحْقَرَ و اِحْتَقَرَ و اِسْتَحْقَرَہٗ: کو ذلیل سمجھنا، حقیر جاننا۔ تَحَاقَرَ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔ کہا جاتا ہے: تحاقرت الیه نفسُهُ: وہ ذلیل ہوگیا۔ الحَقَارَة و الحِقَارَة و الحُقَارَة و المَحْقَرَة: ذلت، کم قدری۔ کہا جاتا ہے: هذا الامرُ مَحْقَرَةٌ لك: یہ کام تمہیں حقیر و ذلیل کردے گا۔ المُحَقَّرَات: چھوٹی اور ادنیٰ چیزیں۔

○ حَقَرَ - حَقراً ہ/ہ: سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، حقیر سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، کے متعلق بری رائے رکھنا۔ حَقُرَ ـ: ذلیل ہونا، کمینہ ہونا، قابل یا لائق مذمت ہونا، سفلہ ہونا، حقارت سے دیکھا جانا، نگاہوں سے گرنا، شرمندہ ہو ذلیل کیا جانا۔ حَقَّرَ ہٗ: کی تحقیر کرنا، کو گھٹا کر دکھانا، میں نقص نکالنا، پر عیب لگانا، کی قدر و قیمت گھٹانا، کو بے وقعت کرنا، حقیر سمجھنا، کو گرا کر دینا، کو بے وقار کرنا، کی قدر گھٹانا۔ ــ ہ/ہ: کو ذلیل کرنا، بے قدر کرنا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، کو گھٹیا یا برا جاننا۔ اِحْتَقَرَ ہ/ہ: سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، کو حقارت سے دیکھنا، کو حقیر سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، کو نظر حقارت سے دیکھنا۔ اِسْتَحْقَرَ ہٗ: کو لائق مذمت سمجھنا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا۔ حَقِیر جمع حُقَرَاء: نیچا، کمینہ، بازاری، سوقیانہ، شرمناک، چھوٹا، تھوڑا، معمولی سا، بے حقیقت، خراب، گھٹیا، بہت ہی تھوڑا، بہت ہی کم، ناقابلِ اعتناء، غریب، مصیبت زدہ، سخت بری حالت میں، ذلیل، حقیر، ذلیل، کمینہ، قابل مذمت، لائق مذمت۔ اَحْقَر: زیادہ کمینہ، زیادہ لائق مذمت یا قابل مذمت۔ حَقَارَة: پستی، گھٹیا پن، سوقیانہ پن، کمینگی، خرابی، شرمناکی، تھوڑا ہونا، غیر اہم ہونا، غربت، خستہ حالی، افلاس، بدنصیبی، فرومائیگی، کمینگی، سفلہ پن، خواری، قابل نفرت ہونا، بدنامی، رسوائی، بے آبروئی، روسیاہی ذلت و خواری۔

تَحْقِیر: ذلت تحقیر، کمینہ پن، سفلہ پن، اہانت، حقارت، نفرت، رسوائی، تذلیل، خواری، بے قدری، خفت۔ اِحْتِقَار: ذلت تحقیر، نفرت، حقارت، بیزاری۔ نظر الیه بعین الاحتقار: کو بنظر احتقار دیکھنا۔ مُحْتَقَر: ذلیل سمجھا ہوا، حقیر جانا ہوا، نفرت کیا گیا، قابل نفرت، حقیر، ذلیل، کمینہ، خوار، سفلہ، پاجی۔

حقط: الحَیْقُط و الحَیْقُطان: تیتر، بعض کے نزدیک نر تیتر۔ مونث الحَیْقُطانَة۔

حقف: حَقَفَ ـ حُقُوفاً الظبیُ: ہرن کا ریت کے تودہ میں بیٹھنا۔ ہرن کا نیند میں جسم کو ٹیڑھا کر کے بیٹھنا۔ ــ الشیءُ: خمدار ہونا۔ صفت: حَاقِف۔ اِحْقَوْقَفَ: لمبا و ٹیڑھا ہونا۔ الحِقْف جمع اَحْقَاف و حُقُوف و حِقَاف و حِقَفَة جج۔ حَقَائِف: ریت کا لمبا اور پیچ دار قطعہ۔ المِحْقَف: کھانا پینا ترک کرنے والا۔ جو نہ کھائے نہ پیے۔

حقل: ۱۔ حَقِلَ ـ حَقَلاً و حَقْلَةً البعیرُ او الفرسُ: اونٹ یا گھوڑے کا مٹی کھانے سے پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا۔ الحِقْل و الحَقْلَة (طب): سبزہ کے ساتھ مٹی کھانے سے گھوڑے یا اونٹ کے پیٹ میں [illegible]

۲۔ حَاقَلَ مُحَاقَلَةً ہٗ: کے ہاتھ کھڑی کھیتی کو پکنے سے پہلے ہی بیچ دینا۔ اَحْقَلَ الزرعُ: کھیتی کا پتے نکالنا (تنا موٹا ہونے سے پہلے)۔ ــ تِ الارضُ: زمین کا قابل زراعت ہونا۔ اِحْتَقَلَ: اپنا کھیت لگانا۔ الحَقْل جمع حُقُول واحد حَقْلَة: کھیت، قابل کاشت زمین، سبز کھیتی۔ المَحْقَلَة جمع مَحَاقِل: بویا ہوا کھیت۔

۳۔ اَحْقَلَ الرجلُ فی الرکوب: سوار کا سواری کی پیٹھ سے چمٹنا۔ الحِقل: ہودج، پالکی۔

۴۔ الحَاقِل: کاشتکار۔ الحَقْلَة (بتثلیث الحاء): بچا ہوا دودھ یا پانی، ردی کھجور، کھجور کا بچا کھچا۔

○ حَقْل جمع حُقُول: میدان، کھیت (مجازاً میدان علم وغیرہ)، کالم column۔ حقل النفط: پٹرول کا کھیت، علاقہ۔ حقول التجارب: تجرباتی میدان۔ حقل کَهْرَبائی: برقی میدان۔ حَقْلی: میدانی، میدان کے متعلق۔ مُحَاقَلَة: اناج کی جب وہ کھیت میں بڑھ رہا ہو فروخت، متفقہ قیمت پر کھیت کے اناج کی فروخت جسے تیار ہونے پر خریدار کے سپرد کیا جائے۔

حقم: الحَقِیمان (ع ا): آنکھوں کے دو بیرونی کونے۔

حقن: ۱۔ حَقَنَ ـ حَقْناً ہٗ: کو روکنا، بند کرنا۔ اسی سے ہے: حقن بولَہٗ: اس نے پیشاب روک لیا۔ ــ دمه: خون کو گرنے سے بچانا۔ ــ ماءَ وجهه: آبرو کی حفاظت کرنا۔ ــ المریضَ: بیمار کا انیما سے علاج کرنا۔ اِحْتَقَنَ المریضُ: بیمار کا پیشاب رک جانا۔ ــ الدمُ: خون کا پیٹ میں خنجر کے گھاؤ سے جمع ہوجانا۔ ـــ المریض: بیمار کا حقنہ استعمال کرنا۔ الحُقْنَة جمع حُقَن (طب): ہر وہ دوا جو بیمار کے مقعد سے فضلہ نکالنے کے لئے چڑھائی جائے، انیما۔ الحَقْنَة جمع اَحْقَان: پیٹ درد۔ الحاقِن (فا): جس کا پیشاب بہت جمع ہو جائے۔ ضرب المثل ہے: لا رایَ لحاقِنٍ: پیشاب روکنے والے کی رائے میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کیونکہ اس حالت میں وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ گویا ایسے مضطرب شخص کے لئے یہ مثل بولی جاتی ہے جو خود اپنے امر کا مختار نہ ہو۔ الحاقِنة جمع حَوَاقِن: حاقن کا مونث، معدہ۔ المِحْقَن: حقنہ کی پچکاری، پانی کا تالاب، ٹینکی۔ المِحقان فی استعمال العامّة: عام لوگ اس کو پانی کی ٹینکی یا تالاب کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ المِحْقَنَة: حقنہ کی پچکاری۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ حَقَنَ ـ حَقْنًا اللبنَ: دودھ کو مکھن نکالنے کے لئے مشک میں جمع کرنا۔ اَحْقَنَ: مزیدار بنانے کے لئے کئی طرح کے دودھ جمع کرنا۔ الحَقِین جمع حُقُنٰی: روکا ہوا، جمع کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے: سقاہ اللبنَ الحَقِین: اس نے اس کو مشک میں رکھا ہوا دودھ پلایا۔ المِحْقَن: دودھ جمع کرنے کی مشک۔

۳۔ الحاقِنَة جمع حَوَاقِن: ہنسلیوں کا درمیانہ حصہ۔ اسی سے یہ مثل ہے: لَأُلْحِقَنَّ حَوَاقِنك بذواقنك: جو تہدید و دھمکی کے موقع پر بولی جاتی ہے۔

ⓒ حَقَنَ ـ حَقْنًا ہ: کو روکنا، روکے رکھنا، دبانا۔ السِرَّ: راز کو اپنے تک رکھنا — دَمَهُ: پر رحم کرنا، کی جان بخشی کرنا۔ — ہ: کو انجکشن لگانا۔ اِحْتَقَنَ: خون کے انجماد میں مبتلا ہونا، پیشاب رکنے کی بیماری میں مبتلا ہونا، انیما، حقنہ یا پچکاری لینا، ٹیکہ لگوانا۔ اِحْتَقَنَ وجهُهُ: اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حَقْن: روکنا، بچانا، انجکشن، انجکشن لگانا۔ حقناً لدمائهم: ان کی جان بچانے کے لئے۔ حقن فی الورید: رگ یا رگوں میں لگائے جانے والا انجکشن۔ حُقْنَة جمع حُقَن: انجکشن، زیر جلدی انجکشن۔ انیما، حقنہ، پچکاری۔ مِحْقَنَة جمع مَحَاقِن: سرنج۔ اِحتقان: احتقان الدم (جسم کے کسی حصہ میں بہت زیادہ خون کا جمع ہونا)۔ احتقان الدم: رگوں یا نسوں میں خون کا اجتماع۔ محتقن: خون کے اجتماع سے سرخ، سرخ چہرہ۔

حقا: ۱۔ حقا ـ حَقْوًا ہ: کی کوکھ پر مارنا۔ حُقِیَ: درد کمر میں مبتلا ہونا، گوشت کھانے سے درد شکم والا ہونا صفت: مَحْقُوّ و مَحْقِیّ۔ تَحَقّٰی: درد کمر کی شکایت رکھنا۔ الحَقْو جمع حِقَاء و اَحْقٍ و اَحْقَاء و حُقِیّ: کمر، سرین، پٹھا، کولہ، چڈھا، ازار۔ کہا جاتا ہے: لاذ بِحَقْوَیْهِ: اس نے اس سے فریاد رسی چاہی۔ الحِقاء و الحَقْوَة: ازار یا ازار باندھنے کی جگہ۔

۲۔ الحَقْو جمع حِقاء و اَحْقٍ و اَحْقَاء و حَقِیّ: پہاڑ کا کنارہ۔ الحِقَاء و الحَقْوَة (طب): گوشت کھانے سے پیٹ میں ہونے والا درد۔

ⓒ حَقْو جمع حِقاء و اَحْقاء: کمر، پٹھا، پیٹ اور ران کے درمیان کا جسم، چڈھا، جانگھ۔ شَدَّ حقویه: کمر بستہ ہونا۔

حكّ: ۱۔ حَكَّ ـ حَكًّا الشیءَ: کا چھلکا اتارنا۔ — الشیء بالشیء او علیه: کو سے رگڑنا، کو پر گھسنا۔ — و اَحَكَّ اِحْكَاكًا و اِحْتَكَّ و اِسْتَحَكَّ ہ رأسُهُ: سر کھجلانا۔ کہا جاتا ہے: ماحَكَّ جلدَكَ مثلُ ظِفْرِك: تمہاری طرح کوئی اور تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ تم اپنی ضرورت کو آپ اچھی طرح پوری کر سکتے ہو۔ لفظی ترجمہ: تیری کھال کو تیرے اپنے ناخن کی طرح کوئی چیز نہ کھجلائے گی۔ اِحْتَكَّ بالشیء: کسی شئے کے ساتھ لازم ہونا۔ الحَكّ و الحِكاك: جانور کے کھجلانے کے لئے درخت کا تنہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ حِكٌّ او حِكَاكُ شرّ: فلاں شخص بہت شرانگیز ہے۔ الحَكَك: سنگ مرمر کی طرح نرم سفید پتھر۔ الحِكَّة: رگڑ۔ (طب) خارش، کھجلی۔ الحَاكَّة: دانت۔ کہا جاتا ہے: مابقی فی فمه حاكّةٌ: اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں بچا۔ الحُكاك (طب): کھجلی جیسی ایک بیماری۔ الحَكَكَة: نرم پتھروں والی زمین۔ الحُكَاكَة: کھرچن، کھرچ کر اتاری ہوئی چیز۔ الأحَكّ: تراشہ ہوا کھر، پوپلا، جس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔ الحَكَّاك: بہت کھرچنے والا، بہت رگڑنے والا، امتحان کے لئے سونے کو رگڑنے والا۔ المِحَكّ: کسوٹی۔ الجِذْلُ المُحَكَّك: خارشی اونٹ کے کھجلانے کے لئے نصب کیا ہوا تنہ۔ کہا جاتا ہے: انا جُذَیْلُها المُحَكَّك و عُذَیْقُها المُرَجَّب: میری رائے سے اس طرح شفا حاصل کی جاتی ہے جس طرح اونٹ تنہ سے شفا حاصل کرتا ہے۔

۲۔ حَكَّ ـ حَكًّا و اَحَكَّ و احْتَكَّ الكلامُ فی صدره: بات کا دل میں گھر کر جانا۔ کہا جاتا ہے: ماحَكَّ فی صدری كذا: مجھ کو یہ بات نہیں جچی۔ الحِكّ و الحِكّة: شک۔ الحَكَّاكات واحد حَكَّاكة: وسوسے۔

۳۔ حَاكَّ مُحَاكَّةً و حِكاكًا الرجلَ: کا مقابلہ کرنا۔ تحاكّا: آپس میں مقابلہ کرنا۔

۴۔ اِحْتَكَّ بفلان: کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ تَحَكَّكَ به: کسی کے ساتھ برائی کرنے پر تیار ہونا۔ مثل ہے: تَحَكَّكَتِ العقرب بالحية: بچھو سانپ کو تکلیف دینے پر تیار ہوا۔ یہ مثل اس شخص کے حق میں بولی جاتی ہے جو اپنے سے زیادہ طاقتور سے مقابلہ کرے، جھگڑا کرے۔ تحاكّا: آپس میں مقابلہ کرنا۔ الحُكُك واحد حاكّ: شرپسند لوگ، برے لوگ۔ الأحْكاك: ہم کفو لوگ۔ کہا جاتا ہے: لستَ من اَحْكَاكِه: تو اس کے آدمیوں سے نہیں۔

۵۔ الحك: [illegible]

(طب): ناک میں سوزش و جلن جو ٹھنڈی ہوا سونگھنے سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ الحَكَك: مونڈھے ہلاتے ہوئے چلنے والی عورت کی مانند چال۔ الحُكُك واحد حاك: اپنی حاجتوں کی طلب میں اصرار کرنے والے۔ الحُكاك: بورک ایسڈ، قلمی شورہ۔

ⓒ حَكَّ ـ حَكًّا: رگڑنا، سہلانا، ملنا، مالش کرنا، کھرچنا، چھیلنا، کھجانا، خارش کرنا۔ — ہ: کو رگڑ کر دور کرنا، کھرچ کر اُتارنا یا صاف کرنا، چھیل کر اُتارنا، کو کھرچ دینا، رگڑ ڈالنا، چھیلنا۔ حَكَّ فی صدره: کو متاثر کرنا، کے دل پر اثر کرنا۔ اَحَكَّ: کھجلی ہونا، خارش ہونا۔ تَحَكَّكَ ب: کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑنا، سے کھرچنا، سہلانا، ملنا، مالش کرنا، سے جھگڑا کرنا۔ تَحَاكَّ: ایک دوسرے کے ساتھ رگڑنا، کھرچنا۔ اِحْتَكَّ ب: کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑنا، کھرچنا، سہلانا، ملنا، مالش کرنا، سے رابطہ میں ہونا۔ اِحْتَكَّ فی صدره: اس نے اس کو متاثر کیا، اس پر اچھا اثر ڈالا، کے دل پر اثر کیا۔ حَكّ: رگڑنا، سہلانا، ملنا، مالش کرنا، رگڑ، فرک، کریدنا، چھیلنا، کھجانا، خارش کرنا۔ حِكَّة: خارش ہونا، کھجلی ہونا، خارش کھجلی۔ حَكَّاك: جوہری، جواہرات کو تراشنے اور جلا دینے والا۔ مِحَكّ: کسوٹی، پرکھ، ذریعہ آزمائش۔ ثَبَتَ عَلَی مِحَكّ النظر: کڑی آزمائش پر پورا اترنا۔ مِحَكَّة: کھرپا۔ تَحَاكّ: باہمی کشمکش، کھچاؤ۔ اِحتكاك جمع احتكاكات: رگڑ، فرک، قریبی رابطہ، کشمکش، کھچاؤ (جیسے نااتفاقی، ان بن، نزاع)۔ مِن غیر اِحتكاك: ناچاقی یا مزاحمت کے بغیر۔ مُحَكَّك: مالش کیا ہوا ملا ہوا، کھجلایا ہوا، رگڑا ہوا، کھجایا ہوا، خراب۔ حُكَّة جمع حُكَك: صندوقچہ، کیس، برتن، مرتبان (حقہ کے معنی میں)۔

حکا: حَكَا ـ حَكْوًا و اَحْكَا العقدةَ: گرہ باندھنا۔ اِحْتَكَأَ العقدةَ: گرہ باندھنا۔ —ت العقدةُ: گرہ کسنا، گرہ بندھنا۔ کہا جاتا ہے: اِحْتَكَأَ الشیء فی صدری: وہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی اور اب مجھے شک نہیں رہا۔ الحُكَأة و الحُكَاة (ح): بڑا گرگٹ۔

حکر: ۱۔ حَكَرَ ـ حَكْرًا ہ: سے بری معاشرت رکھنا، کی زندگی بسر کرنے میں تنگی و مشقت ڈالنا، پر ظلم کرنا، کو گھٹانا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔حَكِرَ ـ حَكَرًا: اصرار کرنا صفت حَكِر۔ حَاكَرَ مُحَاكَرَةً هُ: سے جھگڑا کرنا، کا مقابلہ کرنا۔

۳۔حَكَرَ ـ حَكَرًا بالامر: کو اپنے لئے مخصوص کرنا، میں خود مختار و خود سر ہونا، سامان تجارت مہنگا فروخت کرنے کیلئے روک رکھنا۔ تَحَكَّرَ و اِحْتَكَرَ الشيءَ: کو جمع کرکے اسے اس انتظار میں روکے رکھنا کہ مہنگی ہونے پر زیادہ قیمت پر فروخت کرے گا، مہنگا فروخت کرنے کے لئے غلہ روک رکھنا۔ الحَكَر: مہنگا بیچنے کے لئے روکی ہوئی چیز۔ الحُكَر: بمعنی الحَكَر: فلیٹ کا کرایہ جو اس کا مالک زمین کے مالک کو ادا کرتا ہے، جس پر وہ فلیٹ تعمیر ہو۔ الحُكْرَة: غلہ کی بندش۔ الحَاكُورَة: گھروں کے نزدیک زمین کا ٹکڑا جو درخت اگانے کے لئے مخصوص کیا جائے، پائیں باغ۔ (عام زبان میں)۔

۴۔تَحَكَّرَ علیه: پر حسرت و افسوس کرنا۔

۵۔الحَكَر و الحُكَر: تھوڑا پانی یا کھانا، چھوٹا پیالہ۔ الحُكَرُ: تھوڑا کھانا یا تھوڑا دودھ۔

○ اِحْتَكَرَ ہ: سامان تجارت کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں خرید کر ذخیرہ کرنا اور روک رکھنا، کو من مانا بھاؤ لگانے کے لئے خرید لینا، کسی تجارتی چیز کی اجارہ داری رکھنا، کا اکیلا قابض ہونا، پر اجارہ داری رکھنا۔ حكر و حُكر اور اجرة الحكر: فلیٹ کا کرایہ جو اس کا مالک زمین کے مالک کو ادا کرے جس پر وہ فلیٹ تعمیر ہو۔ حَكَر و حُكَر: ذخیرہ اندوز کیا ہوا۔ حُكْرَة: سامان تجارت کی ذخیرہ اندوزی، اجارہ داری۔ حَاكُورَة: پائیں باغ۔ احتكار جمع احتكارات: من مانی قیمت پر فروخت کیلئے سامان تجارت کی خریداری، سامان تجارت کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں خرید کر ذخیرہ کرنا اور روکے رکھنا، اجارہ داری، امتیازی یا ترجیحی حیثیت، برتری، بالادستی۔ اِحتكارُ تجارةِ البُنّ: کوفی (coffee) کی تجارت پر اجارہ داری۔ اِحتكارُ السكّر: چینی پر اجارہ داری۔ اِحْتِكَارِي: سخت لالچی، حریص، طامع، اجارہ دارانہ۔

حکش: حَكَشَ ـ حَكْشًا الرجلُ: آدمی کا سکڑنا۔ ـ الشيءَ: کو جمع کرنا۔ ـ الرجُلَ: پر ظلم کرنا۔ ـ السراجَ: لیمپ کا فیتہ، نوکدار لکڑی یا کیل سے باہر نکالنا۔ المِحْكَاش: نوکدار لکڑی یا کیل۔

حکف: حَكَفَ ـ حُكُوفًا الرجلُ: کام میں ست و ڈھیلا ہونا۔

حکل: ۱۔حَكَلَ ـ حَكْلًا و اَحْكَلَ و احْتَكَلَ الامرُ علیه: پر معاملہ دشوار ہونا، مشتبہ ہونا، غیر واضح ہونا۔ الحُكْل: وہ چیز جس کی آواز سنائی نہ دے۔ کہا جاتا ہے: تَكَلَّمَ كلامَ الحُكْل: اس نے ایسی بات کی جو سمجھ میں نہیں آئی۔ الحَكَل فی الفرس: گھوڑے کے ٹخنوں کا ڈھیلا پن۔ الحُكْلَة: کلام میں لکنت۔ کہا جاتا ہے: فی لسانه حُكْلَةٌ: اس کی زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے بات واضح نہیں ہوتی۔

۲۔تَحَكَّلَ: جہالت کی وجہ سے اصرار کرنا۔ الحُكْلَة: جہالت کی وجہ سے اصرار۔

حکم: ۱۔حَكَمَ ـ حُكْمًا و حُكُومَةً بالامر و للرجل او علیه و بینهم: کسی معاملہ کا حکم یا فیصلہ دینا، کے حق میں یا اس کے خلاف اور لوگوں کے درمیان حکم یا فیصلہ دینا۔ حَكَّمَ هُ فی الامر: فیصلہ کرنے کے لئے کوئی معاملہ کسی کے سپرد کرنا، کو کسی معاملہ میں ثالث بنانا۔ حَاكَمَ هُ اِلی الحاكِم: کو حاکم کے پاس لیجانا۔ ـــ هُ: سے جھگڑا کرنا۔ تَحَكَّمَ فی الامر: کسی معاملہ میں اپنی رائے سے فیصلہ دینا، اپنی مرضی سے تصرف کرنا، میں کا حکم نافذ ہونا۔ تَحَاكموا اِلی الحاكِمِ: حاکم کے پاس اپنا جھگڑا لیجانا۔ اِحْتَكَمَ الناسُ الی الحاكم: لوگوں کا حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لے جانا۔ ـــ علی فلانٍ: سے ارادہ کے مطابق طلب کرنا۔ ـــ فی الشيء: میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا۔ ـــ فی الامر: کسی معاملہ میں ثالثی منظور کرنا۔ الحُكْم (مص) جمع اَحْكَام: فیصلہ۔ الحَكَم: حاکم، فیصلہ کرنے والا (مفرد اور جمع ہر دو کے لئے مستعمل ہے)، حکم جاری کرنے والا، نافذ کرنے والا۔ الحَاكِم جمع حُكَّام و حَاكِمُون: قاضی، جج، گورنر، حکم نافذ کرنے والا۔ المَحْكَمَة جمع مَحَاكِم: عدالت، کچہری۔ الاُحْكُومَة: تحکم فی الامر کا اسم۔

۲۔حَكَمَ ـ حُكْمًا و حُكُومَةً فی البلاد: ملک پر حکومت کرنا، امور مملکت سرانجام دینا صفت حاكِم جمع حُكَّام۔ حَكَّمَ هُ: کو حاکم مقرر کرنا۔ الحُكْم جمع اَحْكَام: حکومت، امور مملکت کی سرانجام دہی۔ الحُكُومة (مص): ارباب حکم و سیاست، حکومت، ھیئۃ حاکمہ۔

۳۔حَكَمَ ـ حَكْمًا: واپس ہونا۔ (کہا جاتا ہے: أَحكمه فحكم: اس نے اسے واپس کیا تو وہ واپس ہوا۔ [illegible] الفرس: گھوڑا [illegible]

لگام کا دہانہ لگانا۔ ـ ہ عن كذا: سے روکنا، باز رکھنا۔ حَكَمَ هُ عن كذا: کو سے لوٹانا، سے منع کرنا۔ أَحْكَمَ هُ عن الامر: کو سے رد کرنا، منع کرنا۔ الحَكَمَة: لگام کا دہانہ۔ ـ من الانسان: چہرے کا سامنے کا حصہ، قدر و منزلت۔ کہا جاتا ہے: رفع اللّٰهُ حَكَمَتَهُ: اللہ تعالیٰ نے اسے سربلند کیا، اور شان بڑھائی۔

۴۔حَكُمَ ـ حِكْمَةً: دانا ہونا۔ اَحْكَمَتْهُ التجاربُ: تجربات نے اس کو دانا بنا دیا۔ ـــ السفيهَ: نالائق کا ہاتھ پکڑنا یا اسے برے کام کے نتائج سے آگاہ کرنا۔ الحِكْمَة جمع حِكَم: حق کے موافق کلام، فلسفہ، کام کی درستی، انصاف، علم بردباری، حلم۔ الحَكِيم جمع حُكَمَاء مؤنث حكيمة: دانا، عالم، فلسفی، فلاسفر قصيدةٌ حَكِيمَة: پُر دانائی و حکمت قصیدہ۔ الحَكَم من الرجال: عمر رسیدہ آدمی۔ المُحَكَّم: آزمودہ۔ ـ و المُحَكِّم: اپنے آپ سے انصاف کرنے والا۔

۵۔اَحْكَمَ الشيءَ: میں ماہر ہونا، کو مکمل کرنا، کے نقائص دور کرنا۔ اِحْتَكَمَ الامرُ: مضبوط ہونا۔ اِسْتَحْكَمَ الامرُ: مستحکم ہونا، کامل و مکمل ہونا۔

۶۔اِسْتَحْكَمَ علیه الكلامُ: کو بلت اچھی طرح سمجھ میں نہ آنا۔

○ حَكَمَ ـ حُكْمًا فی/علی: پر فیصلہ دینا، رائے دینا۔ ـ علی ب: کا سے اندازہ لگانا۔ ـ علی: پر فیصلہ کرنا، فیصلہ دینا، فیصلہ سنانا۔ ـ علی ب: کو کوئی سزا سنانا۔ ـــ ب علی: جرمانہ کسی پر عائد کرنا۔ ـ ل: کے حق میں فیصلہ دینا۔ ـ ل ب: کو کوئی چیز دینا۔ ـ ب: کو بطور معیار یا نمونہ لینا۔ ـ علی/ہ: پر عدالتی اختیار رکھنا، حاکمانہ اختیار رکھنا، اختیار رکھنا، اقتدار رکھنا، کو تابع رکھنا، مطیع رکھنا، کو قابو میں رکھنا، پر غلبہ یا تسلط رکھنا۔ ـ ب: کا حکم دینا۔ ـ ہ/ہ: کو لگام دینا، روکنا، دہانہ لگانا۔ حُكِمَ علیه بالإعدام: اسے سزائے موت سنائی گئی۔ حكم بِاِدَانَتِهِ: کو مجرم قرار دینا، کو مجرم پانا۔ حكم ببراءته: کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا۔ حَكَّمَ ہ: کو حاکم مقرر کرنا، کو ثالث کے طور پر چننا۔ ـ ہ فی/بین: کو میں یا پر یا کے درمیان/ مابین جج بنانا۔ حَاكَمَ ہ: پر مقدمہ چلانا، کے خلاف استغاثہ کرنا، کو عدالت میں گھسیٹ کر لے جانا، سے پوچھ گچھ کرنا، کے مقدمہ کی سماعت کرنا۔ اَحْكَمَ ہ: کو مضبوط بنانا، ٹھوس بنانا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، کو اچھی طرح کرنا، مہارت سے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا، کا ماہر ہونا، میں ماہر ہونا۔ اَحْکَمَ امرہُ: کو مکمل طور پر، احتیاط سے اور صحیح طور پر کرنا۔ اَحْکَمَ قفل الباب: دروازہ کو مضبوطی سے بند کرنا۔ أَحْکَمَ لغةً: کسی زبان پر حاوی ہونا۔ تَحَکَّمَ فی: میں اپنی مرضی کرنا، حسب مرضی، بے سوچے سمجھے شروع کرنا یا جاری رکھنا، کو من مانے طور پر ہاتھ میں لینا یا سے من مانے طور پر نبٹنا۔ ۔ فی: پر آمرانہ فیصلہ دینا۔ ۔ علی: اپنے آپ کو کا جج بنانا، پر فیصلہ دینا۔ ـــ ب: پر فیصلہ دینا۔ ـــ فی: پر حکومت کرنا، حکمرانی کرنا، کو قابو کرنا، پر کنٹرول کرنا، غلبہ یا تسلط رکھنا، کنٹرول رکھنا۔ تحاکم الی الحاکم: ایک دوسرے کو جج کے روبرو لیجانا، إلی: سے فیصلہ کی اپیل کرنا۔ ـــ: عدالت میں پوچھ گچھ کیا جانا، سماعت کیا جانا۔ احتکم فی: میں من مانی کرنا، کو اپنی مرضی سے بلا سوچے سمجھے شروع کرنا یا کرتے رہنا، کو آمرانہ طور پر ہاتھ میں لینا یا سے آمرانہ طور پر نبٹنا، یا میں آمرانہ طور پر فیصلہ کرنا۔ ـــ فی/علی: پر حکومت کرنا، حکمرانی کرنا۔ ـــ علی: پر قابض ہونا، کنٹرول رکھے ہونا۔ ۔ الی: فیصلہ کے لئے سے اپیل کرنا، سے فیصلہ کا خواہاں ہونا، سے فیصلہ کروانا۔ استحکم: مضبوط، قوی، ٹھوس، سخت یا ہٹا کٹا اور قوی ہیکل ہونا، مستحکم ہونا، گہری بنیاد والا ہونا یا ہو جانا، مزمن ہونا، گہرا، پکا، پختہ ہونا، پرلے درجے کا سخت ہونا، واضح ہونا، بہت نمایاں ہونا۔ حُکُم جمع احکام: فیصلہ، رائے، قیمت کا اندازہ، قانونی فیصلہ، جیوری کا فیصلہ، حکم سزا، سزا کا حکم ملامت، سزا دہی، سزا یابی، اثبات جرم، انصاف دہی، عدالتی اختیار، حلقہ عدلیہ، کسی مقدمہ کے حقائق کی قانونی منزلت، ضابطہ، قاعدہ، قانونی دستاویز میں موجود شرط یا ضرورت، حکم، فرمان، فیصلہ، ڈگری، دانائی، معاملہ فہمی، ججی، اقتدار، قیادت، اتھارٹی، کنٹرول، حکومت، حاکمیت، اقتدار اعلیٰ، راج، فرمانروائی، نظام حکومت جمع احکام، تحریری قوانین، ذیلی قوانین، ضوابط، قواعد، قانونی دستاویز میں درج شرائط و ضروریات، نصوص، شروط معاہدہ، اصول، اصول اخلاق۔ حُکْمًا: قانوناً، اصل میں، فی الواقع، حقیقت میں۔ بِحُکْمِ: ازروئے، بموجب، کے بل پر، کے بھروسہ پر، کے مطابق، کی تعمیل میں۔ فی حُکْمِ: تقریباً، قریب قریب۔ هو فی حکمِ العدم: یہ تقریباً کچھ نہیں عملاً اس کا کوئی وجود نہیں۔ اصبح فی حکم المُقَرَّر: اس کا تو تقریباً فیصلہ ہو چکا

نزل علی حکمه: کے سامنے جھک جانا، کی بات مان لینا۔ حکمُ البَراءَةِ: بریّت۔ حکمٌ حُضُورِیٌّ: مقدمہ کے فریقین کے سامنے دیا گیا فیصلہ۔ الحکم بالاعدام: سزائے موت کا حکم۔ حکمٌ غیابیٌّ: یک طرفہ فیصلہ۔ الحکمُ الذاتیّ: حق خود اختیاری، خود مختاری، آزاد ریاست۔ الحکم الجمهوری: جمہوری طرز حکومت، جمہوری نظام حکومت۔ الحکم المُطْلَق: مطلق العنان، خود مختار نظام حکومت۔ الحکم النِیابیّ: پارلیمنٹری طرز حکومت۔ لَجْنَةُ الحکم: مجلس ممتحنین، ریویو بورڈ، نظر ثانی کی کمیٹی۔ الأَحکام العُرْفِیَة: مارشل لاء۔ احکامٌ اِنتِقَالِیَة: ہنگامی ضوابط۔ احکام خِتَامِیَة: حتمی ضوابط۔ احکام خاصّة: خصوصی ضوابط۔ لِکُلِّ سِنٍّ حِکْمَةٌ: ہر زمانہ کے اپنے دستور ہیں یا قواعد ہیں، ان قواعد کا ان کے اپنے معیار سے اندازہ کرنا چاہئے۔ للضرورة احکام: ضرورت کے اپنے قواعد ہیں، ضرورت کسی قانون کو نہیں جانتی۔ حُکْمِیّ: قانونی۔ حِکْمدار: کمانڈنٹ، پولیس چیف۔ حِکْمِدَارِیّة: کمانڈنٹ کا دفتر۔ حَکَمٌ جمع حُکّام: فیصلہ کرنے والا، ثالث، منصف، جج، حاکم، پنچ، ریفری، امپائر (umpire)۔ حِکْمَة جمع حِکَم: دانائی، تیز فہمی، فراست، زیرکی، فلسفہ، حکمت، دانشمندوں کا قول، کہاوت، مقولہ، بنیادی حقیقت، اصل وجہ۔ لِحِکْمَةِ: کی وجہ سے، کے باعث، کے سبب۔ حِکْمِیّ: کہاوت کا، ضرب المثل، پُر حکمت، حکیمانہ، حکمت آموز۔ الشعر الحِکمی: کہاوتی شاعری۔ حَکَمَة جمع حَکَمات: (گھوڑے کے لگام کا) دہانہ۔ حَکِیم جمع حُکَماء: عقلمند، دانا، دانا شخص، معاملہ فہم، عاقل، ذکی، خردمند، حکیم، عالم، عارف، فلاسفر، فلسفی، طبیب، ڈاکٹر۔ حَکِیمباشِی: سینئر ڈاکٹر، چیف سرجن۔ حُکُومَة جمع حُکُومات: حکومت، گورنمنٹ۔ حُکُومِیّ: حکومت کا، حکومتی، سرکاری، حکومت کا ملکیتی، ریاست کے زیر کنٹرول، ریاستی۔ اَحْکَم: زیادہ عقلمند۔ مَحْکَمَة جمع مَحَاکِم: عدالت، خصوصی عدالت، محکمة الاستئناف: عدالت اپیل۔ محکمة اهلیة: ملکی عدالت (جو صرف اہل وطن کے مقدمات تک محدود ہو)۔ محکمة ابتدائیة: ابتدائی عدالت۔ مَحَاکم اهلیة: ڈسٹرکٹ عدالتیں۔

الجِنَایات: فوجداری عدالت۔ محاکم الاحوال الشخصیة: زندگی پر اثر انداز ہونے والے اعداد و شمار نبٹانے والی عدالت۔ محکمة مُخْتَلِطَةٌ: مخلوط عدالت (غیر ملکی باشندوں پر اختیار سمیت)۔ محکمة شرعیه: اسلامی شریعت کے مطابق انصاف کرنے والی عدالت۔ محکمة مرکزیة: ضلعی عدالت۔ محکمة القضاء الاداری: انتظامی عدالت۔ محکمة النقض و الابرام: مصر کی سب سے بڑی عدالت اپیل۔ تحکیم: ثالث کی تقرری، ثالثی، تحکیم، ثالثی (کا) فیصلہ۔ تحکیمات: قلعہ بندیاں، قلعے۔ تحکیمُ الحال: کسی عدالت کے فیصلہ کی موجودہ حالت سے آغاز۔ هیئة التحکیم: ثالثی بورڈ، جیوری ججوں کی کمیٹی، امپائروں کی کمیٹی، ریفریوں کی کمیٹی۔ لجنة تحکیمیة: بمعنی هیئة التحکیم۔ مُحَاکَمة: عدالتی کارروائی، (عدالت میں) سماعت قانونی استغاثہ۔ اِحْکام: تکمیل، درستی، صحت، صحیح کام، درست تعمیل۔ بالإِحکام: درستی سے صحت سے، ٹھیک ٹھیک۔ بالغ فی الإِحکام: انتہائی طور پر مکمل، مضبوط۔ تَحَکُّم: آمریت، استبدادیت، آمرانہ اختیارات یا عمل، مطلق العنانی، خود مختاری، تسلط، اقتدار، غلبہ، عملداری، فرمانروائی، حکومت۔ ـــ فی: پر کنٹرول، قابو۔ تَحَکُّمِی: آمرانہ، استبدادی، جابرانہ، خودسرانہ۔ استحکام: تیز کرنا، زوردار بنانا، شدید کرنا، زیادتی، مضبوط کرنا، استحکام، پائدار کرنا، قلعہ بندی، مورچہ بندی، فوجی استحکامات۔ حَاکِم: حکمران، حکومت کرنے والا، تابع رکھنے والا جمع حَاکِمون و حُکّام: حاکم، بادشاہ، گورنر، جج۔ حاکم بِأَمْرِه: ڈکٹیٹر، جابر، خود مختار، مطلق العنان، استبدادی، جابرانہ۔ حاکمٌ عام: گورنر جنرل۔ حاکم المبارات: ایمپائر، ریفری۔ حاکم الصُلح: مجسٹریٹ۔ حاکم الناحیة: ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ حَاکِمِیّة: تسلط، حکومت، حاکمیت اقتدار اعلیٰ، ججی، نظام عدالت، عدالتی اختیار، اختیار سماعت، حاکمانہ اختیار۔ محکوم علیه: جسے کسی سزا کا حکم سنایا گیا ہو۔ المحکوم علیهم بالاعدام: جنہیں موت کی سزا کا حکم یا فیصلہ سنایا گیا۔ محکوم علیه بالفشل: جس کا ناکام ہونا مقدر ہو۔ مُحَکَّم جمع مُحَکَّمون: ثالث، ـــ فی: میں ایمپائر، ریفری۔ مُحْکَم: مضبوط کیا ہوا، کمک دیا ہوا، مضبوط، ٹھوس، قوی ہیکل، کسا ہوا، تنا ہوا، کامل، مکمل،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ماہرانہ، ہنرمندانہ، استادانہ، ٹھیک نشانہ والی (کمان، ضرب) صحیح، درست، ٹھیک۔ مُحْکَمُ التدبیر: اچھی طرح منصوبہ بند، اچھی طرح تدبیر والا۔ مُسْتَحْکَم: کمک دیا ہوا، مضبوط کیا ہوا، مستحکم، مضبوط، شدید، سخت، گھر کر چکا، گہری بنیاد وللا، پختہ (رواج، وصف وغیرہ) جمع مستحکمات: قلعہ بندیاں، ملک کی حفاظت کیلئے فوجی اقدامات۔

حکی: ا۔ حَکَی - حِکَایۃً الخبرَ: خبر بیان کرنا۔

۲۔ حَکَی - حِکَایۃً عنه الکلامَ: سے کلام نقل کرنا۔ الحَاکِي: فونوگراف، گراموفون۔

۳۔ حَکَی - حِکَایۃً فلاناً: سے مشابہ ہونا۔ — الشيءَ: کے مشابہ بنانا۔ حَاکَی مُحَاکاۃً ہُ: کے مشابہ یا مانند ہونا۔

۴۔ حَکَی - حِکَایۃً علیه: کی چغلی کھانا۔ الحَکِيّ: چغل خور (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے)۔

۵۔ حَکَی - حِکَایۃً العِقدۃَ: گرہ باندھنا۔ اِحْتِکَی احتکاءً الامرُ: مضبوط ہونا۔

○ حَکَی - حِکَایۃً ہ: کو بتانا، بیان کرنا، کا حال بتانا، کی رپورٹ دینا۔ بولنا، بات کرنا۔ — ہ: کی نقل کرنا، کا نمونہ اتارنا، کا سا بنانا، کا چربہ اتارنا، کی نقل اتارنا، کا سا ہونا، جیسا ہونا۔ — ہ/ہ: کے مشابہ ہونا، مانند ہونا۔ حَاکَی ہ: کی نقل کرنا، کا نمونہ اتارنا، کی نقل اتارنا۔ — ہ: کو اپنے میں سمو لینا، جیسا ہونا، کے مانند ہونا، کے مشابہ ہونا، سے ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا، موافق ہونا۔ حِکایۃ جمع حِکَایات: کہانی، قصہ، سرگزشت، لفظی اقتباس، قول۔ مُحَاکَاۃ: نقل، مشابہت، مماثلت، ہم آہنگی۔ حَاكٍ: بیان کرنے والا، قصہ گو، فونوگراف، لاؤڈ سپیکر، ریڈیو۔ مَحْکِيّ: نقل اتارا ہوا، نقل کا، نقل کے متعلق۔

حلّ: ا۔ حَلَّ ـُ حَلًّا العُقْدَۃَ: گرہ کھولنا۔ انحلت العقدۃُ: گرہ کا کھل جانا۔ اسی سے ضرب المثل ہے: یاعاقد اذکر حلًّا: جس گرہ کو تو باندھ رہا ہے اس کو کھولنے کا راستہ چھوڑ، تاکہ تیری گرہ ایسی نہ ہو کہ کھل نہ سکے۔ حُلَّ الجامدُ: جامد کا پگھلایا جانا۔ اِنْحَلَّ: کھلنا، کھل جانا۔ الحَلَّال: حال سے مبالغہ کا صیغہ، گرہ کھولنے والا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ حلّالٌ للعُقَدِ کافٍ للمہمات: فلاں شخص بہت عقدہ کشا اور مشکلات کے لئے کافی ہے۔ الحَلَالَۃ: چرخہ۔ التحلیلُ الکہربائی (ف): برقی تحلیل (جیسے پانی کو برقی رو سے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن میں لوٹانا)

۲۔ حَلَّ ـِ حِلًّا الشيءُ: کسی چیز کا حلال ہونا، جائز ہونا۔ حَلَّلَ تَحْلِیْلًا و تَحِلَّۃً و تَحِلًّا الشيءَ: کسی چیز کو حلال قرار دینا، جائز ٹھہرانا۔ — ہُ: کو بری کرنا، بری الزمہ قرار دینا۔ اَحَلَّ اِحْلالاً الشيءَ: کو حلال کرنا، جائز کرنا۔ تَحَلَّلَ ہُ: سے الگ ہونا، نکلنا، آزاد ہونا۔ اِسْتَحَلَّ الشيءَ: کو جائز سمجھنا، شمار کرنا یا حلال و جائز بنانا یا کرنا۔ ہُ الشيءَ: کو کوئی چیز اس کے لئے جائز کرنے کے لئے کہنا۔ الحِلّ (مص): حلال، جائز۔ الحالّ جمع حُلَّل و حُلُول و حُلَّال: (فا): حلال، جائز۔ الحَلال: حلال، جائز۔ الحِلَال: حلال، جائز، آدمی کا سامان۔ الحَلِیل: حلال، جائز۔

۳۔ حَلَّ ـُ حَلًّا و حَلَلاً و حُلُولاً المکانَ و بالکان: کسی جگہ اترنا۔ به في المکان: کو کسی جگہ اتارنا۔ حُلَّ المکانُ: جگہ کا آباد ہونا۔ حَلَّلَ تَحْلِیلاً و تَحِلَّۃً ہُ بالمکان: کو کسی جگہ اتارنا۔ اَحَلَّ اِحلالاً ہُ بالمکان او المکانَ: کو کسی جگہ اتارنا۔ اِحْتَلَّ المکانَ و بالمکان: کسی جگہ اترنا ٹھہرنا کہا جاتا ہے۔ اِحْتَلَّ القوم وَ بالقوم: وہ قوم کے پاس ٹھہرا۔ الحِلّ: کسی جگہ اترنے والا ٹھہرنے والا۔ کہا جاتا ہے۔ مازلتُ حِلًّا بھذا البلد: میں ابھی تک اس شہر میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ الحَلِیل جمع اَحِلّاء مونث حَلِیل و حَلِیلَۃ جمع حَلائِل: خاوند، بیوی۔ ایک ہی گھر میں دوسروں کے ساتھ رہنے والا۔ کہا جاتا ہے: ھذا حلیلُك: یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہنے والا ہے۔ الحِلال: عورتوں کی ایک سواری۔ الحَلَّۃ: حلول سے اسم مرہ۔ جمع۔ حِلَل و حِلال: مجلس، اکٹھا ہونے کی جگہ۔ محلّہ۔ الحِلَّۃ: اترنے کی ہیئت۔ جمع حِلَل و حِلال: بڑی تعداد میں اترنے والی قوم۔ حَيٌّ حِلَالٌ: کثیر تعداد میں اترنے والا قبیلہ، مجلس، جلسہ، محلّہ۔ الحُلُول (مص) عند العلماء: دو جسموں کا اتحاد جس کی وجہ سے ایک کی طرف اشارہ، دوسرے کی طرف اشارہ ہو جیسے گلاب کے پھول میں گلاب کے پھول کا پانی۔ اسی سے ہے۔ مَذْھَبُ الحُلُول: اس مکتبہ فکر کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اور ہر چیز کے ہر جزء میں حلول کئے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ہر چیز پر یہ اطلاق کرنا صحیح ہے کہ لاہوت کے ناسوت پر تفوق کی وجہ سے وہ چیز اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی خدائی اوصاف کے نسل انسانی پر تفوق کی وجہ [illegible] اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ میں حلول کرنے کا اعتقاد۔ — الحَیِّزِيُّ: جیسے جگہوں میں جسموں کا حلول۔ — الوَصْفِيّ: جیسے جسم میں سیاہ رنگ کا حلول۔ — السَّرَیانيّ: جیسے ہیولی میں صورت کا حلول یا نفس میں نفسیاتی امراض کی علامات کا حلول۔ — الجِوَارِيّ: ایک جسم کے دوسرے جسم کا ظرف ہونا جیسے پانی کا آبخورے میں حلول۔ الحُلُولِیَّۃ: صوفیاء کا ایک فرقہ جو ہمہ اوست یا وحدت الوجود کا قائل ہے۔ المَحَلّ جمع مَحَال: اترنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ المَحلّۃ: اترنے کی جگہ، ماءٌ مُحَلَّلٌ: اونٹوں کے اترنے سے گدلا ہو جانے والا پانی، مکانٌ مُحَلَّلٌ: لوگوں کے زیادہ اترنے کی جگہ۔

۴۔ حَلَّ ـِ حِلًّا الرجلُ: احرام سے نکلنا۔ اَحَلَّ اِحلالاً: عہد و میثاق سے آزاد ہونا۔ — المُحْرِمُ: محرم کا احرام سے نکلنا، اشہر حرام کے علاوہ مہینوں میں داخل ہونا۔ الحِلّ (مص): مکہ معظمہ کے حرم شریف سے باہر کا علاقہ۔ اس کے مقابلہ میں لفظ الحَرم ہے۔ — والحُلّ: احرام سے نکلنے کا وقت۔ کہا جاتا ہے فعله في حله و حرمه (دونوں میں کسر و ضم سے): اس نے اس کو احرام کی حالت میں اور احرام سے نکلنے کے وقت کیا۔ اشھرُ الحِلّ: اشہر حرم کے علاوہ مہینے۔ الحَلَال: احرام سے نکلنے والا۔ الاِحْلال رسوم حج سے فراغت، اس کا مقابل لفظ احرام ہے۔ مُحِلّ (فا)۔ حَرم کی پردہ دری کرنے والا۔ رجلٌ مُحِلٌّ: بے عہد مرد۔

۵۔ حَلَّ ـِ حُلُولًا علیه امرُ اللّٰه: پر اللہ کا حکم واجب ہونا۔ ـِ حِلًّا الدَینُ: ادائیگی قرض کا وقت آ پہنچنا۔ اَحَلَّ اِحلالاً بنفسه: سزا کا مستحق ہونا۔ — علیه الامرَ: پر حکم واجب کرنا۔ مَحِلُّ الدَین: قرض کی میعاد۔

۶۔ حَلَّ ـِ حِلَّتِ الیمینُ: قسم پوری ہونا۔ حَلَّلَ تَحْلِیلاً و تَحِلَّۃً و تَحِلًّا الیمینَ: قسم کا کفارہ ادا کرنا۔ تَحَلَّلَ من یمینه: کفارہ دے کر قسم سے آزاد ہونا۔ — في یمینه: قسم کو شرطیہ بنانا جیسے کہے۔ واللّٰه لَأَفْعَلَنَّ ذلك ان شاءَ اللّٰهُ اَوِالاّ اَنْ یَکُونَ کَذَا: میں ایسا کروں گا اگر اللہ نے چاہا یا یہ کہ اگر ایسا ہوا تو: الحِلّ: قسم سے بریت۔ التَحِلّۃ: قسم کا کفارہ۔

۷۔ حَلَّ ـَ حَلَلاً: کے پاؤں یا ٹخنے میں ڈھیلا پن ہونا صفت۔ اَحَلّ جمع حُلّ الحَلَّۃ و الحِلَّۃ: ٹوٹ پھوٹ، کمزوری، کہا جاتا ہے۔ فیه حَلّۃ او حِلّۃ: اس

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

میں کمزوری ہے۔ الاَحَلّ مونث حَلّاء جمع حُلّ: پاؤں میں ڈھیلے پن والا۔

۸۔ اَحَلَّ اِحلالاً تِ الناقة علی ولدها: اونٹنی کا دودھ اس کے بچے کو میسر آنا۔ الاِحْلِیل جمع اَحَالِیل: تھن کا سوراخ جس سے دودھ نکلتا ہے۔ پیشاب نکلنے کی جگہ۔ التِحْلِیل: بمعنی الاِحْلِیل۔

۹۔ الحِلّ: نشانہ۔ السحر الحَلال: شیطان سے مدد کے بغیر وہ عجیب باتیں جن سے عقلیں دنگ رہ جائیں۔ اَلحُلّة جمع حُلَل وحِلال: نیا کپڑا، تمام جسم کو ڈھانکنے والا لباس۔ ہتھیار۔ کہا جاتا ہے: لبس المُحاربُ حُلّتَهُ وبزّتَهُ: لڑنے والے نے اپنے ہتھیار اور لباس زیب تن کیے۔ الحَلّة: زنگل کا بڑا ٹوکرا۔ والحِلّة جمع حِلَل و حِلال من الشیء: کسی شئے کی طرف سمت۔

۱۰۔ حَلْحَلَ الشیءَ: کو ہلانا، ہٹانا۔ القومَ: قوم کو ان کی جگہوں سے ہٹانا، علیحدہ کرنا۔ تَحَلْحَلَ عن مکانه: اپنی جگہ سے حرکت کرنا، ہٹ جانا۔ الحُلاحِل جمع حَلاحِل و المُحَلْحَل و المُلَحْلَح: اپنے قبیلے کا سردار، پورا بہادر۔

○ حَلَّ ـُ حَلّاً ہ: (گرہ) کھولنا، کوئی چیز کھولنا، حل کرنا کا اثر باطل کرنا، (مسئلہ معما) حل کرنا، (رمزی تحریر) کو پڑھنا، حل کرنا کسی کیمیاوی شئے کو پانی میں تحلیل کرنا، کسی چیز کا تجزیہ کرنا، کی ترکیب نحوی کرنا، کی تحلیل کرنا، کو سڑانا، گلانا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی تنظیم یا جماعت کو توڑنا (پارلیمنٹ) کو برخاست کرنا، (پیکٹ وغیرہ) کھولنا، کو ڈھیلا کرنا۔ ہ/ہ: کو آزاد کرنا۔ ہ من: کو سے بری کرنا، کی سے گلو خلاصی کرنا، چھٹکارا دلانا، بری الذمہ قرار دینا، کو گناہ کی معافی دینا۔ حُلّ: آزاد ہونا، ڈھیلا ہونا۔ ـُ حُلُولاً: اترنا، ٹھہرنا، رکنا۔ ہ/ب/فی: کسی جگہ ٹھہرنا میں رہنے لگنا، آباد ہونا۔ علی: کے ساتھ، کے گھر ٹھہرنا، مقیم ہونا کو ملنے آنا۔ ہ: کسی جگہ یا ملک میں رہائش اختیار کرنا۔ علی: کو سخت غصہ، غضب یا طیش آجانا۔ علی: نیند کا کسی پر قابو پانا یا کو گھیرے میں لے لینا۔ علی/ب۔ پر (آ) پڑنا، واقع ہونا۔ ب: کو سزا، تکلیف یا مصیبت پیش آنا، ہونا۔ فی: اللہ تعالیٰ کا کسی میں مجسم ہو جانا، حلول کرنا۔ ـ: (وقت یا موسم کا) آنا، شروع ہونا۔ ـ ـِ: حل ہو جانا، (رنگ کا) پھیکا پڑ جانا۔ ـِ حِلّاً: جائز ہونا، حلال ہونا، قانونی ہونا، قانون کے مطابق ہونا (قرض کا) واجب الادا ہونا۔ حَلّ فی

پر رہنا، لگا رہنا، فائز رہنا۔ مَحَلّهُ: صحیح مقام پر ہونا۔ حَلّ مَحَلّ الشیءِ یا حَلّ محل فلان: کسی چیز یا شخص کی جگہ لینا۔ کا قائم مقام ہونا یا کسی چیز یا شخص کے قائمقام کے طور پر خدمات سر انجام دینا یا کے قائم مقام کے طور پر فرائض سر انجام دینا۔ حلّت فی قلبه محلاً: اس عورت کی اس مرد کے دل میں ایک جگہ تھی۔ حَلّ محلّ التقدیر لَدَیْهِ: کسی شخص کے لحاظ سے متمتع ہونا اس کے از حد احترام و توقیر سے مستفید ہونا۔ حلّ من نفوس القراء محلّ الامتحان: قارئین کو پسند آنا، قارئین کی توجہ مبذول کرنا یا قارئین کو مرغوب ہونا قارئین کی پسند ہونا۔ حَلَّلَ ہ: کو حل کرنا، کا تجزیہ کرنا، کو تباہ کرنا۔ کی تحلیس کرنا، کو سڑانا، گلانا، کا کیمیاوی تجزیہ کرنا، کو حل کرنے والا ہونا تحلیل کرنے والا ہونا۔ ـ ہ: کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، کی گلو خلاصی کرنا، کو چھٹکارا دلانا، معافی دلانا کو بیگناہ ظاہر کرنا ـ تَحِلّةَ: قسم کا کفارہ ادا کرنا۔ ـ ہ: کو جائز، قانونی یا قانون کے مطابق بنانا، جائز، ٹھیک بنانا، کی منظوری دینا، کا جواز پیش کرنا، کی توجیہ کرنا، کو جائز، حلال، قانونی، قانون کے مطابق قرار دینا، کی اجازت دینا۔ اَحَلّ ہ من: کو سے بری قرار دینا، چھڑانا، الگ کرنا نجات دلانا، کی سے گلو خلاصی کرنا، کو سے چھٹکارا دلانا کو سے بری الذمہ قرار دینا، کو کی معافی دینا۔ ہ: کو جائز، حلال، قانونی یا قانون کے مطابق قرار دینا، کی اجازت دینا، کو واقع کرنا، رائج کرنا، کا باعث ہونا، کو وجود میں لانا، کو مستحکم کرنا، کو قائم کرنا، کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنا، کو مضبوط کرنا، کو استحکام عطا کرنا۔ اَحَلّ ہ ہ: کو کی جگہ دلانا، کو کی جگہ پر قابض کرنا۔ ہ ہ: کو (خصوصاً قبیلہ کو) کسی جگہ منتقل کرنا۔ ـ ہ بین: بین کا کے درمیان فیصلہ کرنا یا کو کے درمیان نمٹانا۔ اَحَلّهُ مَحَلّهُ: کو کی جگہ دلانا، کو کی جگہ رکھنا، کو کا قائم مقام بنانا کو کے بدل لینا، احلّ الشیء محلّ العنایة: پر توجہ دینا، کو اپنا معاملہ بنانا، تَحَلَّلَ: حل ہونا، پگھلنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ من: خود کو سے الگ کرنا، علیحدہ کرنا نکالنا، چھٹکارا دلانا۔ اِنْحَلّ: (گرہ کا) کھلنا، (مسئلہ کا) حل ہونا (کسی تنظیم، جماعت وغیرہ کا) ٹوٹ جانا، حل ہونا، پگھلنا، کمزور یا ڈھیلا ہونا، سست ہونا، لنگڑانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو جانا۔ اِحْتَلّ ہ: کسی جگہ [illegible] آباد ہونا [illegible]

سنبھالنا، پر قابض ہونا، کسی عہدہ وغیرہ پر ہونا۔ اِحْتَلّ المکانَ الاوّلَ: اہم یا اول مقام جگہ پر قابض ہونا۔ اِحْتَلّ اَعْمَالَهُ: کے فرائض منصبی سنبھالنا۔ اِسْتَحلّ ہ: کو جائز، حلال یا قانونی یا قانون کے مطابق سمجھنا، سمجھنا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ ـ ہ: کو جائز کھیل یا چال سمجھنا کو آسان شکار سمجھنا، پر ناجائز طور پر قبضہ کرنا، میں خرد برد کرنا، کو غصب کرنا۔ حَلّ جمع حُلُول: کھولنا، ڈھیلا کرنا۔ (گرہ) کھولنا، (مسئلہ معما وغیرہ کا) حل، کی توضیح، پہیلی بوجھنا، (راز) پانا، دریافت کرنا۔ (کیمیاوی) حل تحلیل، تجزیہ (تنظیم وغیرہ کو) توڑنا، برخاست کرنا، تنسیخ، منسوخی، آزاد کرنا، چھوڑنا، روکی ہوئی رقم واگزاشت کرنا، سے پابندی ہٹا لینا، ختم کرنا، بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، بریت، مغفرت، اعلان نجات، خلاصی، معافی۔ قَابِل لِلْحَلّ: حل پذیر، حل ہونے یا کرنے کے قابل، قابل تجزیہ۔ الحلّ الطیفی: تحلیل طیفی۔ اهل الحَلّ والعقد یا اهل الحلّ و الربط: با اثر لوگ، برسر اقتدار لوگ۔ فی حلّهِ وترحالِه: اپنے تمام اعمال میں، اپنے ہر کیے ہوئے کام میں۔ حِلّ: کان فی حِلٍّ مِن (عن): وہ کو کرنے میں آزاد تھا، وہ کسی کام کا انتظام کرنے یا اسے ٹھکانے لگانے میں آزاد تھا۔ انتَ فی حِلٍّ مِن: آپ ...... میں آزاد ہیں، کو آپ بخوشی کر سکتے ہیں۔ حَلّة جمع حِلَل: تانبے کا نیچا برتن، پکانے کا برتن۔ حِلّة: راستے کا پڑاؤ، رکنے کی جگہ، سٹاپ، راستے میں مختصر قیام، پڑاؤ، رہائی، خلاصی، چھٹکارا، مغفرت، نجات، مکتی، اعلان نجات (مسیحیت میں) کسی مذہبی فریضہ سے استثناء (مسیحیت میں) حُلّة جمع حُلَل: لباس پوشاک، جامہ، خلعت، قربان گاہ کی چادر، کپڑوں کا جوڑا۔ مغربی سوٹ، حُلّة رسمیة: یونیفارم، وردی، حُلّة السَهْرَة: رسمی لباس۔ حَلَال: جس کی اجازت ہو، جائز، روا، مباح قابل منظوری، حلال، قابل قبول، قابل تسلیم، قانونی، قانون کی نظر میں، قانون کے مطابق، قانوناً اور شرعاً جائز، مناسب یا واجب، شرعی، باضابطہ، صحیح النسب، جائز عقد سے۔ قانونی قبضہ۔ ابن حلال: جائز بیٹا، قانونی عقد کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا بیٹا، قابل احترام آدمی، آبرو دار اور شائستہ شخص، حُلُول: ٹھہرنا، قیام کرنا آنا، اترنا، پڑنا، ناگہانی مصیبت آنا، مجسم، زندہ نمونہ، مظہر، انسانی شکل، تجسیم، (وقت وغیرہ کا) شروع، بعثت، ابتداء، آغاز، کسی کی قائم مقامی، کسی کی جگہ رکھنا۔ حَلِیل جمع اَحِلّاء:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خاوند،شوہر، حَلِيلَةٌ جمع حَلائل: بیوی۔ إِحْلِيل: مثانہ سے پیشاب کے اخراج کی نالی، پیشاب کی نالی کا بیرونی سوراخ، مَحَلّ جمع مَحَلّات و مَحَالّ: جگہ،قرارداده مقام، مُعَیَّنہ مقام، موقع، موقع محل جائے وقوع، علاقہ، مرکز، رہائش (کی جگہ) کاروبار، تجارت محل تجارت، سٹور، دکان، جھگڑے، تحسین وغیرہ کا مقصد، غرض، سبب، وجہ،علت، گاڑی کا گئر (Gear) مَحَلَّه: کی جگہ، فی مَحَلِّهِ: کی جگہ، کے بجائے کی بجائے، کے بدلے۔ كان فی محله: صحیح جگہ ہونا، مناسب، موزوں، برجستہ یا برمحل ہونا، ضروری ہونا، قرین مصلحت ہونا، قابل توجیہ ہونا، حق بجانب ہونا، روا ہونا۔ فی غیر مَحِلّه: نامناسب ہونا، بے موقع ہونا، بے جا ہونا، خلاف مصلحت ہونا، بے وقت ہونا۔ غیر موزوں ہونا، بے ٹھکانا ہونا، ناموزوں ہونا، بے محل ہونا۔ صَادَفَ مَحَلَّهُ: آسان، مفید، موزون، معقول یا آرام دہ ہونا، انتہائی بروقت، برمحل، موزوں، مناسب، درست یا ٹھیک ہونا، لامَحَلَّ لَهُ: کے لئے کوئی جگہ یا گنجائش نہیں ہے، یہ بے محل، بے موقع ہے۔ مَحِلّ العمل: کام کی جگہ مدد، خدمت کی جگہ۔ محل الإقَامَة: رہائش گاہ، پتہ: محل تجاری: ایوان تجارت، دکان المحلات العمومية و التجارية: عوامی یا شہری خدمات اور تجارتی ایوان۔ اسم المحل: فرم۔ محل درهونات: چیزیں رکھ کر روپیہ سود پر دینے والی دکان، محلّ السياحة: ٹریول ایجنسیاں۔ محلّ مُرَطَّبَات: کھانے پینے کی ہلکی چیزوں کی دکان جیسے چائے خانے۔ محل اللَّهْوِ اور محلّ الملاهي جمع مَحَالّ، دل بہلانے، کھیلوں یا تفریح کا مرکز۔ محل نِزاع: بحث کی چیز متنازع فیہ معاملہ، لا أرى محلاً لِعَجَب: میں حیرت کی کوئی وجہ نہیں دیکھتا، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ محلّ نَظَرٍ: قابل توجہ چیز، جاذب توجہ غیر معمولی چیز، مَحَلِّي: مقامی، لوکل، دیسی، ملکی، محدود حلقے کا۔ مَحَلِّيَات: مقامی خبریں کسی اخبار کا مقامی صفحہ۔ مَحِلّ: ادائیگی یا تقسیم کی تاریخ۔ مَحَلَّة جمع مَحَلّات: راستہ کا پڑاؤ، ٹھہرنے کی جگہ، سٹاپ، راستہ میں مختصر قیام، پڑاؤ، کیمپ، سٹیشن، حصہ، شہر کا محلہ، المحلة الكُبْرَى: شمال مصر کے ایک شہر کا نام۔ تَحْلِيل: حل کرنا، تحلیل، تجزیہ، کسی مرکب سے اجزاء کی علیحدگی، تفصیل، صفات کی تخصیص، تشریح، خلاصہ بیان کرنا، جملہ کی ترکیب کرنا، جمع۔ تَحَالِيل: تحلیل، تجزیہ (کیمیائی)، (مسیحیت میں) رہائی، خلاصی، چھٹکارا، مغفرت، نجات، مکتی، اعلان نجات۔ بالتحليل: تفصیل سے۔ مَعْمَل تحليل: کیمیائی تجزیہ گاہ۔ تحليل كَهْرَبَائِي: برق پاشیدگی، برق پاشی۔ التحليل النفسي (النفساني): تحلیلی نفسیات۔ نفسیاتی تحلیل۔ تَحْلِيلِيّ: تجزیاتی، تحلیلی۔ تَحَلُّل: تجزیہ، تحلیل، منسوخ ہونا، ٹوٹنا تباہ ہونا، جلسے وغیرہ کا ختم ہونا۔ اختتام پذیر ہونا جدائی، علیحدگی، فراق، ہجر، رہائی، خلاصی، دور رہنا۔ اِنْحِلال: نکاح کا فسخ ہونا مجلس قانون کے اجلاس کا اختتام، خاتمہ، زوال، تباہی، گلنا، سڑنا، انتشار، بوسیدگی، تنزل، سڑاند، سستی، سخت تھکاوٹ، کمزوری، نامردی۔ احتلال: قبضہ۔ جُيُوش الاحتلال: قابض فوجیں۔ احْتِلالِي: قابض، قبضہ کرنے والا، غیر ملکی قبضہ کا حامی۔ مَحْلُول: حل کیا ہوا، جدا کیا ہوا، چھوٹے ٹکڑوں میں علیحدہ کیا ہوا، ڈھیلا، کھلا نہ بندھا ہوا، آزاد، قید سے رہا۔ کمزور کیا ہوا، تھکا ماندہ، نڈھال، حل۔ مَحْلُولُ الشعر: ڈھیلے بالوں والا، پریشان، بکھرے یا الجھے ہوئے بالوں والا۔ مُحَلِّل: تجزیہ نگار، تجزیہ کرنے والا، تحلیل کرنے والا۔ مُنْحَلّ: حل شدہ، حل کیا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، کئی ٹکڑوں میں کیا ہوا، توڑا ہوا، برخاست کیا ہوا، نڈھال، تھکا ماندہ، کمزور، جائز قرار دیا ہوا، اجازت دیا ہوا۔ جُيُوش مُحْتَلَّة: قابض افواج۔

حَلأ: ١۔ حَلَأَ ـَ حَلْأً ہُ بالسيف: کو تلوار سے مارنا۔ ہُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ به الارضَ: کو پچھاڑنا، زمین پر پٹخنا۔

٢۔ حَلَّأَ ـَ حَلْأً تَحْلِيئًا وتَحْلِئَةً ہُ الشيءَ: کو کوئی چیز دینا۔

٣۔ حَلَأَ ـَ حَلْأً الجلدَ: جلد کھرچنا، چھیلنا۔ الْحَلُوء و الحُلَاءَة: چمڑے کی جھلی جو رنگنے والا اتارتا ہے۔ المِحْلأ و المِحْلأة: چمڑا صاف کرنے کی چھری۔

٤۔ حَلَأَ ـَ حَلْأً ہُ: کو سرمہ لگانا۔ له حَلُوءًا: کے لئے سرمہ یا انجن رگڑنا، گھسنا۔ أَحْلَأَهُ: کو سرمہ لگانا۔ الحَلُوء و الحُلَاءَة: سرمہ۔ الحالِئَة: بڑا زہریلا سانپ۔

٥۔ حَلِئَ ـَ حَلَأً: کی کھال پر بال ہونا یا بالوں کی سیاہی ہونا۔ الحَلَأ او التِّحِلِئ او التِّحِلِئَة: چمڑے پر کے بال، چمڑے کا میل اور اس کی سیاہی۔

٦۔ حَلِئَ [illegible] کے بنٹ [illegible] جاتا الحَلَأ: آبلے، چھالے۔

٧۔ حَلَّأَ تَحْلِيئًا و تَحْلِئَةً ہُ عن الماء: کو پانی پر اترنے سے روک دینا۔ التِّحْلِئَة: بوجھل، بھاری۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ تِحْلِئَةٌ: بوجھل آدمی، نا قابل برداشت آدمی۔

حلب: ١۔ حَلَبَ ـُ حَلْبًا وَحَلَبًا و حِلابًا الشاةَ: بکری کو دوہنا۔ کہا جاتا ہے: حَلَبَ الدهرَ أشْطُرَه: اس نے زمانے کی بھلی بری باتوں کو خوب آزما لیا۔ اشطر اونٹنی کے تھن کے باکھ کو کہتے ہیں۔ حَلَبْتَ بالساعد الأشد: تم نے ایسے شخص سے مدد لی جو تیرے کام کو بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ — وأَحلبتُ الرجلَ: میں نے اس مرد کے لئے دودھ دوہا۔ — تُهُ ناقتي: میں نے اپنی اونٹنی، اسے دوہنے کے لئے دی۔ حَالَبَ هُ: کے ساتھ مل کر دودھ دوہنا۔ اِحْتَلَبَ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا، اونٹنی کا دودھ دوہنا۔ واسْتَحْلَبَ: دوہ کر دودھ نکالنا۔ الحَلَب (مص): کہا جاتا ہے: ماله حَلَبٌ ولا جَلَبٌ: اس کے پاس نہ تو اونٹنیاں ہیں اور نہ ہی اونٹ۔ — والحليب: دوہا ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے۔ شربتُ حَلَبًا: میں نے تازہ دودھ پیا۔ دمٌ حليبٌ: تازہ خون۔ (شراب التَمْر): کھجور کی شراب۔ الحَلْبَى: دودھ دینے والی کہا جاتا ہے۔ ناقةٌ حَلْبَى رَكْبَى او حَلْبَانَةٌ رَكْبَانَةٌ: دودھ دینے والی اور سواری دینے والی اونٹنی۔ الحَلْبَة جمع حَلَبات و حَلَائِب: ایک دفعہ کا دوہنا۔ الحَلْبَتَان: صبح و شام (ان دو وقتوں میں دودھ دوہنے کی وجہ سے یہ نام پڑا)۔ الحالِب جمع حَلَبَة (فا): دودھ دوہنے والا۔ الحَوَالِب واحد حَالِبَة: تھن کے اردگرد کی رگیں۔ الحِلاب: دودھ دوہنے کا برتن۔ الحَلَّاب: بہت دودھ دوہنے والا۔ الْحُلَّب: (ن) نبات کی ایک قسم جو زمین پر پھیل جاتی ہے اور اگر کا کوئی حصہ کاٹا جائے تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ الحَلُوب والحَلُوبَة جمع حُلُب و حَلَائِب من الابل و الغنم: دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری۔ دوہا جانے والا جانور دوہی ہوئی۔ التِّحلابَة و التُّحْلُبَة و التَّحْلَبَة والتِحْلبَة والتُّحْلِبَة و التُّحلَبَة من الغنم: گیابھن ہونے سے پہلے دودھ دینے والی بکری۔ المِحْلَب جمع مَحَالِب: دودھ دوہنے کا برتن۔ المَحْلَب جمع مَحَالِب: دودھ دینے کی جگہ۔ المُحْلِب: وہ شخص جس کی اونٹنیاں اونٹنیاں جنیں کہا جاتا ہے۔ فلانٌ مُحْلِبٌ مُجْلِبٌ: فلاں شخص کی اونٹنیوں نے اونٹنیاں

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جنیں اور وہ اونٹنیوں کا دودھ دوہتا ہے، اور اونٹوں کو بیچنے کے لئے لیجاتا ہے۔
۲۔تَحَلَّبَ و اِنحَلَبَ العَرَقُ او الدمعُ او الماءُ او النَدَی: پسینہ، آنسو پانی یا اوس کا بہنا۔۔ ـتْ عینُه: کی آنکھ کا آنسو بہانا۔ ۔فَمُهُ: کے منہ کا رال ٹپکانا، تھوک نکالنا۔حَلَبُ الکَرْم و حلب العصیر: شراب۔کہا جاتا ہے۔ذاقوا حَلَبَ امرهم: انہوں نے اپنے کام کا خمیازہ بھگتا۔حَوَالِبُ البِئرِ او العَینِ: کنویں یا آنکھ کے پانی کے سوتے۔حَوَالِبُ الانف: ناک کی وہ رگیں جس سے ریزش نکلتی ہے۔ الحَلَّاب من الایام: نمناک دن، وہ دن جس میں اوس (شبنم) پڑے۔
۳۔حَلَبَ ـُ حَلَبًا و حَلَبًا و حِلَابًا الرجلُ: زانو کے بل بیٹھنا۔
۴۔حَلَبَ ـُ حَلَبًا و حُلُوبًا القومُ: مدد کے لئے قوم کا ہر طرف سے سمٹ آنا۔حَالَبَ هُ: کو مدد دینا۔اَحْلَبَ القـومُ: مدد کے لئے قوم کا ہر طرف سے سمٹ آنا۔ـہ: کو مدد دینا۔اِستَحلَبَ القومُ: مدد کے لئے لوگوں کا اکٹھا ہونا۔الحَلَائِب: جماعتیں، کسی کے معاون و مددگار خصوصاً چچیرے بھائی۔المُحلِب (فا): کسی کا مددگار جو اس کی قوم کا نہ ہو۔
۵۔حَلِبَ ـُ حَلَبًا الشعرُ: بالوں کا سیاہ ہونا۔الحُلبُوب: کالا رنگ۔کہا جاتا ہے۔اَسوَدُ حُلبُوبٌ: بہت کالا۔
۶۔الحَلبَة جمع حَلَبات و حَلَائِب: گھوڑوں کی ایک دفعہ کی دوڑ۔دوڑ میں حصہ لینے والے گھوڑے کہا جاتا ہے۔هو یرکض فی کلِّ حَلبَةٍ من حَلَباتِ الـجدِّ: وہ بزرگی و شرافت کی ہر دوڑ میں دوڑتا ہے۔ الحُلبَة جمع حُلَب (ن): میتھی۔الحُلبَة: ریوڑ سے الگ ہو جانے والا بکریوں کا ایک حصہ۔الحَالِبَان (ع ا): دو رگیں جن سے پیشاب گردوں سے مثانہ میں آتا ہے۔المَحلَب (ن): ایک درخت جس کے بیج سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔الحَلبُوب (ن): ایک قسم کی نبات جس کے پتے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور آباد جگہوں پر بکثرت ہوتا ہے۔الحُلَّبان و الحِلبَاب و الحُلبُوب (ن) نباتات کے نام۔
○ حَلَبَ ـِ حَلبًا هُ: کسی جانور کا دودھ دوہنا۔حَلَبَ الدهرَ اَشطُرَهُ: اس نے اچھے اور برے دن دیکھے ہوئے ہیں۔تَحَلَّبَ: رسنا، ٹپکنا، بہنا، پھوٹ نکلنا، قطرہ قطرہ ہو کر گرنا، قطرے ٹپکنا، چلنا، منہ میں پانی آنا، رال ٹپکنا۔تَحَلَّبُ له الافواه: رال ٹپکانے والی، منہ میں پانی لانے والی، اشتہاء پیدا کرنے والی، اشتہاء انگیز، بھوک بڑھانے والی (کھانے کی چیز) تحلب اللعابُ فی فمی: میرے منہ میں پانی آرہا تھا۔اِحتَلَبَ هُ: (دودھ دینے والے جانور) کو دوہنا۔اِستَحلَبَ هُ: (دودھ دینے والے جانور) کو دوہنا، سے رس نکالنا۔حَلْب: دودھ دوہنا۔حَلَب: دودھ۔حَلبَة جمع حَلَبات: دوڑ کا راستہ، اکھاڑہ، دنگل، میدان، رقص کا فرش، دوڑنے والے گھوڑے۔ حلبةُ الرقص: رقص کا فرش۔انه لیس من تلك الحلبة: وہ اس کے لئے پیدا نہیں ہوا، اس کا اس سے تعلق نہیں، یہ اس کی سمت نہیں ہے۔فارسُ حَلبَةٍ ب: کا ماہر، میں نمایاں، سبقت لیجانے والا۔حُلبَة: میتھی، زچہ کی مقوی دوا۔حَلِیب: دودھ۔لبنُ حلیب: گائے کا دودھ۔حَلُوب: دودھ دینے والا (جانور)، دودھ یا دودھ کا عرق پیدا کرنے والا۔بقرة حلوب: دودھ دینے والی گائے۔المَاشیَةُ الحُلُوب: دودھ دینے والے مویشی۔دودھ کے کارخانے کی گائیں۔حَلَّاب: دودھ دوہنے والا۔ حَلَّابة: دودھ دوہنے والی دودھ دینے والی گائے۔ حالِب: گردوں سے مثانہ میں پیشاب لانے والی نالی۔مُستَحلَب: دودھ کے رنگ کی روغنی دوا روغن آب، تیل اور پانی کا شیرہ۔مُستَحلَبُ اللَّوز: بادام کا دودھ۔حَلَب: الپو Aleppo (شہر کا نام)۔
حلت: ا۔حَلَتَ ـِ حَلتًا الرأسَ: سر مونڈنا۔الصوفَ: چمڑے سے اون اکھیڑنا۔الحُلاتة: اون اکھڑنے پر اس کا گرا ہوا حصہ۔الاَحلَت: اکھڑے ہوئے بالوں یا اون والا۔
۲۔حَلَتَ ـِ حَلتًا الدَّینَ: قرض ادا کرنا۔
۳۔حَلَتَ ـِ حَلتًا ظهرَ الخَیل: گھوڑے کی پیٹھ سے چمٹ کر رہنا۔
۴۔حَلَتَ ـِ حَلتَاهُ بسلحه: پاخانہ کرنا۔
۵۔الحَلِیت: یخ، اولا، پالا۔
حلج: ا۔حَلَجَ ـُ حَلجًا فی المشی: آہستہ آہستہ چلنا۔فی العَدْوِ: دوڑنے میں لمبے لمبے قدم رکھنا۔ ۔القومُ لیلتَهم: قوم کا رات کو چلنا۔کہا جاتا ہے۔بات القومُ یحلجون لیلتهم: قوم رات بھر چلتی رہی۔الحُلجة و الحَلجَة: مسافت۔
۲۔حَلَجَ ـُ حَلجًا القطنَ: روئی دھن کر اس میں سے بنولے نکالنا صفت: حَلَّاج صفت مفعولی: حلیج و محلوج [illegible] اِختَلَجَ حَقَّهُ: کا حق لے لینا۔الحِلاجة: دھنیے کا پیشہ۔ المِحلَج جمع مَحَالج و مَحَالیج: روئی دھننے کا آلہ، وہ چیز جس پر روئی دھنی جاتی ہے۔المِحلاج جمع مَحَالِج و مَحَالیج: روئی دھننے کا آلہ، بیلن۔ المِحلَجَة: وہ چیز جس پر روئی دھنی جاتی ہے۔
۳۔حَلَجَ ـُ حَلجًا الخُبزَة: روٹی کو بیلن سے گول کرنا۔الحُلَج: بہت کھانے والا۔المِحلاج جمع مَحَالِج و مَحَالیج: بیلن (روٹی بیلنے کا)۔
۴۔حَلَجَ ـُ حَلجًا الحبلَ: رسی بٹنا۔
۵۔تَحَلَّجَ فی صدره: بات کا کھٹکنا۔
۶۔تَحَلَّجَ الحَلُوج: بادل کا چمکنا۔الحَلُوج: چمکنے والا بادل۔المِحلَج: چرخی کا محور۔
○ حَلَجَ ـُ حَلجًا و حَلِیجًا هُ: (روئی) کو دھنا۔حلج روئی کو دھنا، حَلِیج: (روئی کو) دھنا، دھنی ہوئی (روئی) حِلاجَة: دھننے کا کام یا پیشہ۔حَلَّاج: روئی دھننے والا۔مِحلَج و مِحلَجَة جمع مَحَالِج: کپاس اوٹنے کی مشین، بیلن۔مَحلَج جمع مَحَالِج: روئی دھننے کا کارخانہ۔
حلز: حَلَزَ ـُ حَلزًا الجلدَ او العودَ: چمڑے یا لکڑی کو چھیلنا۔تَحَلَّزَ القلبُ: دل کا دردمند ہونا۔ ۔الشیءُ: باقی رہنا۔بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔للامر: کسی امر کے لئے تیار ہونا۔اِختَلَزَ منه حَقَّهُ: سے اپنا حق لینا۔الحِلِّز: بخیل، کنجوس، بدخلق، پستہ قد (ح) الواحد حِلِّزة (ز): ایک قسم کا غلہ۔ الحَلَزُون (ح): گھونگا، الحلزُونه (فی عرف الحدادین و النجّارین) مخروطی چکر۔لوہاروں اور بڑھیوں کی اصطلاح میں وہ سوراخ، جس میں پیچدار کیل گھومتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے اور الٹی پھیرنے کے بغیر نہیں نکلتی۔الحَلَزونیِ: وہ شکل یا خط جو گھونگے کی ہیئت کا پیچدار ہو۔
○ حَلَزُون و حَلَزُونه: گھونگا، مخروطی چکر۔حَلَزُونی: پیچ دار، چکر دار، کمانی دار، گھومتا ہوا، مرغولہ دار۔
حلس: ا۔حَلَسَ ـِ حَلسًا البعیرَ: اونٹ کو ٹاٹ یا کمبل سے ڈھانپنا۔حَالَسَ البعیرَ: اونٹ کو ٹاٹ یا کمبل اوڑھانا۔اَحلَسَتِ الارضُ: زمین کا سرسبز ہونا، زمین کی نباتات کا برابر اور ہموار ہونا۔ ۔اِستَحلَسَتِ الارضُ: زمین کا سرسبز ہونا، زمین کی نباتات برابر و ہموار ہونا۔النبتُ: نباتات کا زمین کو ڈھانپ لینا۔اللیلُ: رات کا بہت تیرہ و تاریک ہونا۔الحِلس و الحَلَس جمع اَحلاس و حُلُوس و حِلَسة: ہر وہ کپڑا جو زین یا پالان کے نیچے ڈالا جاتا ہے۔ہر وہ کپڑا جو قیمتی کپڑوں اور سامان

maffat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ٹاٹ،کمبل۔المُخْلِسة من الارض: زمین جس کو گھنے سبزہ نے ٹاٹ کی طرح ڈھانپ رکھا ہو۔

۲۔حَلَسَ ـِ حَلْسًا ت السماءُ: آسمان کا لگاتار ہلکی بارش برسانا۔اَحْلَسَ ت السماءُ: آسمان کا لگاتار ہلکی بارش برسانا۔

۳۔حَلَسَ ـِ حَلْساً الرجلُ بالشيء: کسی چیز کا بہت حریص ہونا۔حَلِسَ ـَ حَلَسًا و تَحَلَّسَ بالمكان: کسی جگہ جم کر رہنا۔أَحْلَسَ هُ الخوفَ: کو ڈرائے رکھنا۔حَالَسَ هُ: کو چمٹ جانا،لگ جانا،لازم ہونا،اِسْتَحْلَسَ الخوفُ فلاناً: کو ڈر لگا رہنا۔الحِلْس: اپنی جگہ سے نہ ٹلنے والا۔(کہا جاتا ہے۔فُلانٌ حِلْسُ بيته: فلاں شخص اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔عربوں کے نزدیک یہ ایک مذمت ہے،کہ وہ صرف گھر میں پڑا رہنے ہی کا لائق ہے۔هو حِلْسٌ من احلاس البلاد: وہ ملک کی محبت کی وجہ سے اسے چھوڑتا نہیں۔یہ مدح ہے یعنی وہ صاحب عزت و قوت ہے)۔سردار، بہادر۔أَحْلَاسُ الخيل: وہ لوگ جو گھوڑوں پر ہی سوار رہیں۔كونوا احلاسَ بيوتكم: تم اپنے گھروں میں ہی رہو۔هذا ليس من احلاس فلان: یہ فلاں کا کفو نہیں ہے۔رفضتُ كذا و نقضتُ احلاسَهُ: میں نے اسے ترک کر دیا۔الحَلِس: بہادر جو اپنے ساتھی کے ساتھ رہے۔حریص جو اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔الحَلُوس: نہ ٹلنے والا لالچی۔

۴۔حَلِسَ ـَ حَلَسًا و تَحَلَّسَ لِلامر: کسی کام کے لئے چکر لگانا کہا جاتا ہے۔ماتَحَلَّسَ منه بشيءٍ و ما تحلّس شيئًا: اس کو اس میں سے کچھ نہیں ملا۔

۵۔اَحْلَسَ هُ: سے عہد و میثاق کرنا،کو عہد دینا۔الحِلْس: عہد و میثاق۔الحِلْس: عہد و میثاق، جوئے کا چوتھا تیر۔

۶۔اَحْلَسَ الرجلُ: مفلس ہونا۔

۷۔اَحْلَسَ فلانًا بالبيع: کو خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا۔

۸۔اِحْلَسَّ: سیاہی مائل سرخ ہونا۔صفت اَحْلَسُ مونث حَلْسَاء۔الحَلِس: سیاہی مائل سرخ رنگ۔اُمُّ حِلْس: گدھی۔

○ حَلَسَ ـِ حَلْسًا: کسی جگہ مستقل طور پر رہنا،ٹھہرنا،کسی جگہ سے وفاداری کرنا۔حِلْس جمع اَحْلَاس: کا عادی،خوگر،کی لت پڑا ہوا،پر جما رہنے والا،سے وابستہ رہنے والا۔احلاسُ اللهو: لذت، سرود،کھیل تفریح کے عادی،امیر لوگ جو مزے لینے میں وقت صرف کرتے ہیں۔حِلْس جمع اَحْلَاس و حُلُوس: زین کا کمبل۔اَحْلَس مونث حَلْسَاء: سرخی مائل بھورے رنگ کا (گھوڑا)۔

حلط: ۱۔حَلَطَ ـُ حَلْطًا: قسم کھانا۔اَحْلَطَ الرجلُ: قسم کھانا۔في اليمين: سرگرمی سے قسم کھانا۔اِحْتَلَطَ الرجلُ: قسم کھانا۔

۲۔حَلَطَ ـُ حَلْطًا: غضبناک ہونا۔في الامر: میں اصرار کرنا،جلدی کرنا۔حَلِطَ ـَ حَلَطاً عليه: پر غضبناک ہونا۔اَحْلَطَ الرجلُ: قسم کھانا۔ــــ هُ: کو غضبناک کرنا۔اِحْتَلَطَ الرجلُ: قسم کھانا۔عليه: پر غضبناک ہونا۔

۳۔حَلِطَ ـَ حَلْطًا منه: کسی سے تنگ ہونا،زچ ہونا،تھک جانا۔

۴۔اَحْلَطَ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔

حلف: ۱۔حَلَفَ ـِ حَلْفاً و حِلْفاً و حَلِفًا و مَحْلُوفًا و مَحْلُوفَةً و مَحْلُوفَاءَ باللّٰه: اللہ کی قسم کھانا۔حَلَّفَ و اَحْلَفَ واسْتَحْلَفَ هُ: کو قسم دینا۔حَالَفَ مُحَالَفَةً هُ: سے معاہدہ کرنا،عہد و پیمان کرنا۔تَحَالَفُوا: باہم عہد و پیمان کرنا۔الحَلْف والحَلِف والأُحْلُوفَة: قسم۔الحِلْف جمع اَحْلَاف: وہ دوست جو اپنے دوست سے بیوفائی نہ کرنے کی قسم کھائے۔عہد و پیمان،دوستی۔الحَلَّاف والحَلَّافَة: بہت قسمیں کھانے والا۔ضرب المثل ہے۔كلّ حَلَّافٍ كَذَّاب: ہر شخص جو بہت قسمیں کھاتا ہو جھوٹا اور فریبی ہوتا ہے۔المُحْلِف: مشکوک بات کو ثابت کرنے کے لئے قسم کھانا،کہا جاتا ہے۔هذا غلامٌ مُحْلِفٌ: یہ ایسا لڑکا ہے جس کے احتلاف میں شک ہے۔الحَلِيف جمع حُلَفاء: عہد و پیمان کرنے والا۔الدَّولَةُ الحليفة: دوست ملک۔

۲۔حَالَفَ مُحَالَفَةً فلاناً حُزْنُهُ: غم لگا رہنے والا ہونا۔الحِلْف: ساتھ لگا رہنے اور جدا نہ ہونے والا۔کہا جاتا ہے۔فلانٌ حِلفُ كذا: فلاں شخص اس سے جدا نہیں ہوتا۔الحَلِيف جمع حُلَفاء: کسی چیز کے ساتھ رہنے اور اس سے جدا نہ ہونے والی چیز۔کہا جاتا ہے: فلانٌ حليفُ الجودِ: فلاں شخص ہمیشہ فیاضی کرنے والا ہے۔فلانٌ حليفُ اللسان: فلاں شخص چرب زبان اور فصیح ہے۔

۳۔الحَلْفاء جمع حَلَفٌ و حُلُفٌ: بہت چکنے والی بوٹی واحد حَلَفَة و حَلْفَاةٌ: ایک قسم کی بوٹی جس کے اطراف کھجور کی شاخ کے مانند تیز ہوتے ہیں،پانی کے بہاؤ کی جگہ اگتی ہے۔اس کے پتوں سے ٹوکریاں،چٹائیاں،رسیاں اور کاغذ بنائے جاتے ہیں،مصر اور الجزائر میں اگائی جاتی ہے۔الحَلَافِيّ: وہ جگہ جہاں حلفاء بوٹی اگتی ہے یا بکثرت پائی جاتی ہے۔الحَلْفَة و المُحْلِفة من الاراضي: زمین جس میں حلفاء بوٹی کی کثرت ہو۔

○ حَلَفَ ـِ حَلْفًا و حِلفًا يمينًا: قسم اٹھانا۔حَلَّفَ هُ: کو قسم کھلانا،کو عہدے پر فائز ہوتے وقت حلف دینا،سے التجا کرنا۔حَالَفَ هُ: کے ساتھ متحدہ ریاستوں میں داخل ہونا،کے ساتھ معاہدہ کرنا،کا حلیف ہونا۔تَحَالَفَ على: پر باہم عہد و پیمان کرنا،اتحاد میں شامل ہونا۔ــ مع: کا اتحادی ہونا۔اِسْتَحْلَفَ هُ: کو قسم کھلانا،سے قسم لینا،سے التجا کرنا۔حَلْف و حِلف: قسم،حلف۔حلف اليمين: قسم لینا۔حِلف: قسمیہ یا حلفیہ اتحاد،فیڈریشن،ممالک مُسْلکہ،نیم وفاقی ریاستیں،اتحاد،متحدہ جماعت۔حِلف عسكري: فوجی اتحاد۔الحلف الأطلنطي: معاہدہ اوقیانوس۔حَلِيف جمع حُلَفاء: شریک،حلیف،دوست،ساتھی،متحد،اتحادی۔الحلفاء: اتحادی (جماعتیں،ملک)۔حَلِيفَة جمع حليفات: حلیف کا مؤنث۔حَلُّوف جمع حَلَالِيف: جنگلی سور،خنزیر۔تَحْلِيف: قسم کھلانا،حلف لینا۔لجنةُ التحليف: جیوری۔مُحَالَفَة: اتحاد،تحالف: اتحاد کی حالت،اتحاد،اتحاد کا معاہدہ۔مُحَلَّف: جس کو قسم کھلائی گئی ہو،جس سے حلف لیا گیا ہو،قسم کا پابند جمع مُحَلَّفُون: جیوری کا رکن۔مُتَحَالِف: باہم متحدہ،اتحادی۔

حلق: ۱۔حَلَقَ ـِ حَلْقًا و تَحْلَاقًا الراسَ: سر مونڈنا۔حَلَّقَ الراسَ: سر مونڈنا۔اِحْتَلَقَ الراسَ: سر مونڈنا۔الحِلْق: بہت مونڈی۔الحَلِق: بے بالوں والا۔الحَلَّاق: نائی،حجام۔الحُلَاقَة: مونڈے ہوئے بال۔الحِلَاقَة: نائی کا پیشہ۔الحَلِيق جمع حَلْقَى: مونڈا ہوا۔کہا جاتا ہے۔شعر حليق: مونڈے ہوئے بال۔لحية حليق: منڈی ہوئی داڑھی۔المِحْلَق: استرہ۔

۲۔حَلَقَ ـُ حَلْقًا الشيءَ: چیز کو چھیلنا۔

۳۔حَلَقَ ـُ حَلْقًا الرجلَ: کے حلق پر مارنا۔حَلِقَ ـَ حَلَقًا: کے گلے میں شکایت ہونا۔الحَلْق (مص) جمع اَحْلَاق و حُلُوق و حُلُق (ع ا): گلا۔الحلوق من الارض: زمین کی نالیاں،وادیاں۔کہا جاتا ہے: اخذوا في حلوق الطريق: انہوں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نے تنگ راستے اختیار کئے۔ الحَلاق و الحَوْلَق: گلے کا درد۔ الحِلاق: گلا۔

۴۔ حَلَقَ ُ حَلْقًا القومُ بعضهُم بعضًا: ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ تِ السنةُ القومَ: قحط سالی کا قوم کو مصیبت میں ڈالنا۔ صفت: حَلُقَی۔ ۔ت السنةُ کلَّ شَیءٍ: قحط سالی کا ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا اور ہلاک کر دینا۔ الحَالِقه جمع حَوَالِق: سخت سال، موت۔ الحَلاق: موت مبنی علی الکسر معدول از حالقہ: موت۔ الحَالُوق: موت۔ الحَوْلَق والحَلِیق: بلا، مصیبت۔ الحالوقة: منحوس (لوگوں کے لئے) چنانچہ کہا جاتا ہے سیفٌ حالوقة اور رجل حالوقة: تیز تلوار اور سخت آدمی۔

۵۔ حَلَقَ ُ حَلْقًا الحوضَ: حوض کو بھرنا۔ حَلَّقَ الاناءُ من الشراب: برتن کا بھر جانا، برتن کا پانی خشک ہو جانا۔ ضرعُ الناقة: اونٹنی کا دودھ خشک ہو جانا، چڑھ جانا۔ اَحْلَقَ الاناءَ او الحوضَ: برتن یا حوض کو بھرنا۔ حَلْقَةُ الحوض: حوض کا بھر جانا۔ ضرعٌ حالِقٌ جمع حُلَّق و حوالِق: دودھ سے بھرا ہوا تھن، دودھ کی کمی کی وجہ سے پیٹ سے چمٹا ہوا تھن۔ الحَالِقَة جمع حَوَالِق: الحالق کا مونث۔

۶۔ حَلَّقَ ت عینُ الحیوان: جانور کی آنکھ کا دھنس جانا۔

۷۔ حَلَّقَ الشیءَ: کو حلقہ کے مانند بنانا۔ القمرُ: چاند کے گرد حلقہ پڑنا۔ الطائرُ: پرندہ کا ہوا میں اڑ کر چکر لگانا۔ النجمُ: ستارہ کا بلند ہونا۔ تَحَلَّقَ القومُ: حلقہ بنا کر بیٹھنا۔ القمرُ: چاند کا ہالہ میں آنا۔ الحَلْقَة جمع حَلَق و حَلَقات: ہر گول چیز۔ حلقةُ القوم: قوم کا دائرہ۔ کہا جاتا ہے: سَألهُ فی حلقنه: اس نے اس سے اس وقت سوال کیا جب کہ وہ اپنے طلباء کے حلقہ میں گھرا ہوا تھا۔ ۔۔۔ البابِ: دروازہ کا حلقہ۔ الحَالِق جمع حَلَقة من الجبال: اونچا چٹیل پہاڑ۔ کہا جاتا ہے۔ جاء من حالِق: وہ اونچی جگہ سے آیا۔ هوی من حالِق: وہ ہلاک ہو گیا۔

۸۔ الحِلَق: بادشاہ کی انگوٹھی۔ الحَلْقَةُ جمع حَلَق و حَلَقات: زرہ۔ رسیّ الحَالِقَة جمع حَوَالِق: بری بات۔

۹۔ الحَوْقَلَة: دیکھو 'حول'۔

۱۰۔ حَلْقَمَ هُ: کا گلا کاٹنا۔ الحُلْقُوم جمع حَلاقِیم: گلا۔

○ حَلَقَ ِ حلقاً ه: سر مونڈنا، چہرے کے بال مونڈنا، شیو کرنا، داڑھی مونڈنا۔ حَلَّقَ: ہوا میں گھومنا، چکر لگانا، منڈلانا، منڈلاتے رہنا، گرد و پیش پھرتے رہنے اڑنا اور پرکو اڑنا (پرندے، ہوائی جہاز کا)۔ ۔۔۔ علی/فوق: پر چکر لگانا، منڈلانا، اڑنا۔ - ہ: کو گول کرنا، گول بنانا، حلقہ دار چھلے دار بنانا، کے گرد جانا۔ ۔۔۔ علی: کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیر لینا، کو گھیرے میں لینا، حلقے میں لینا۔ تَحَلَّقَ: دائرہ بنانا، دائرہ میں بیٹھنا، حلقہ میں بیٹھنا۔ علی: کے گرد حلقہ بنا کر جمع ہونا۔ حَلْق: شیو کرنا، شیو۔ جمع حُلُوق و احلاق: گلا، حلقوم، نرخرا، منہ اور ناک کے پیچھے وہ جگہ جہاں ناک اور منہ کو جانے والے راستے گلے سے جڑتے ہیں۔ حَلْقی: گلے کا، حلق کا۔ حَلَق: انگوٹھیاں، چھلے، بالیاں، آویزے، بندے۔ حَلْقَة و حَلَقَة جمع حَلَق و حَلَقات: چھلا، بالی آویزہ، بندہ وغیرہ، زنجیر کی کڑی، حلقہ، حلقہ اشخاص۔ دائرہ، ایک استاد کے تحت تعلیم پانے والے طلبہ کا گروہ، لیکچر، نصاب، سلسلہ کا حصہ، چھلا، ڈسک، دس سال کی مدت، مارکیٹ۔ حلقة النجاة: بچاؤ پہیہ (life buoy)، زندگی کی حفاظت کرنے والا۔ حلقةُ الاتصالِ و حلقةُ الوصل بین: کے درمیاں ملانے والا رابطہ، تعلق، واسطہ۔ الحلقة المَفْقُودَة: گم شدہ رابطہ، کڑی، درمیانی شکل۔ فی الحلقة السادسةِ مِن عمرہ: کی عمر کی چھٹی دہائی میں، ۵۰ تا ۶۰ کی عمر میں۔ حَلْقَةُ الأَسْمَاك: مچھلی منڈی حلقةُ القُطن: روئی مارکیٹ، کپاس مارکیٹ۔ حَلَقی: چھلے کی شکل کا، گول۔ حَلاّق: نائی۔ حَلاّق صِحّیّ و حَلاّقُ الصحّة: ماہر سرجن۔ فصد کھولنے والا، جراح۔ حَلِیق: داڑھی مونچھ منڈا۔ حِلاقَة: شیو، شیو کرنا، نائی کا پیشہ۔ صابون الحلاقة: شیونگ سوپ۔ صالون الحلاقة و قاعة الحلاقة: نائی کی دکان، باربر شاپ۔ مَاكِينَةُ الحلاقة: و آلة الحِلاقة: سیفٹی ریزر۔ Safety razor مِحْلَق جمع مَحَالِق: استرہ۔ تحلیق: (ہوائی جہاز کا) اڑنا، اڑان، پرواز (علی/فوق: کسی ملک پر) پرواز۔ من حالِقٍ: اوپر سے، بلندی سے۔ حُلْقُوم جمع حَلاقِیم: گلا، حلقوم، نرخرا۔ راحةُ الحلقوم: نشاستہ، چینی، مصطگی اور پستہ سے بنی ہوئی مٹھائی۔

حلك: حَلِكَ َ حُلُوكَةً و حَلَكًا و حُلُوكًا واحْلَوْلَكَ واسْتَحْلَكَ: سخت سیاہ ہونا۔ صفت: حَالِك و حَلِكَ۔ الحَلَك و الحُلْكَة: سخت سیاہی۔ الحَلْكَة والحَلْكَاء والحُلْكَاء و الحُلُكَاء والحَلَكاء والحُلَكی: چھپکلی کی مانند [illegible]

ہے۔

○ حَلِكَ َ حَلَكًا: کالا سیاہ ہونا، گہرا سیاہ ہونا۔ اِحْلَولَكَ: بمعنی: حَلِكَ۔ حَلَك: بے حد سیاہی۔ حُلْكَة: سخت سیاہی۔ حَلِك: کالا سیاہ، گہرا سیاہ، تاریک، گھٹا ٹوپ۔

حلم: ۱۔ حَلَمَ ُ حُلُمًا و حُلْمًا فی منامه: خواب دیکھنا۔ کہا جاتا ہے۔ حَلَمَهُ و حَلَم به: اس نے اس کو خواب میں دیکھا۔ اِنْحلَمَ و اِحْتَلَم فی نومه: خواب دیکھنا۔ الحُلُم جمع اَحْلَام (مص): خواب۔ کہا جاتا ہے۔ هذه احلامُ نائِمٍ: یہ جھوٹی آرزوئیں ہیں۔

۲۔ حَلُمَ ُ حِلْمًا: درگزر کرنا، بردبار ہونا، صفت: حَلِیم جمع حُلَماء و اَحْلام۔ مونث: حَلِیمة۔ حَلَّمَ تَحْلِيمًا و حِلاَّمًا هُ: کو بردبار بنانا۔ تَحَلَّمَ: بردبار بننا۔ -الحِلْمَ: بردباری سے کام لینا۔ تَحَالَمَ: ایسی بردباری ظاہر کرنا جو اس میں نہ ہو۔ الحِلْم جمع اَحْلام و حُلُوم: بردباری کبھی جہالت اور بے وقوفی کے مقابلہ میں آتا ہے (جیسے کہتے ہیں: ان سفاه الشیخ لاحِلْمَ بعده: بوڑھے کی کند ذہنی انتہاء پر ہے) صبر وقار، آہستگی، سکون۔ عقل۔ کہا جاتا ہے: تامرهم احلامهم بكذا ان کی عقلیں انہیں اس کا حکم دیتی ہیں۔

۳۔ حَلَمَ ُ حُلْماً و حُلُماً الصبیُّ واِحْتَلَمَ: لڑکے کا بالغ ہونا۔

۴۔ حَلَمَ ُ حَلْمًا الجلدَ: چمڑے میں سے کیڑے نکالنا۔ حَلِمَ َ حَلَمًا الجلدُ: چمڑے کا خراب ہونا اور اس میں کیڑے پڑ جانا صفت: حَلِم و حَلِیم حَلَّمَ الجلدَ: چمڑے سے کیڑے نکالنا۔ الحَلَمَة جمع حَلَم (ح): چمڑے کا کیڑا۔ التَحْلِمَة جمع تَحَالِم: بہت کیڑوں والا۔

۵۔ حَلَّمَ تَحْلِيمًا و حِلاَّمًا القِربة: مشک کو بھرنا۔ تَحَلَّمَت القربةُ: مشک کا پانی سے بھر جانا۔ الرجلُ: آدمی کا موٹا ہونا۔ الحَلِیم: موٹائی کی چربی۔ الحَلَمة جمع حَلَم (ع ا): سر پستان۔

۶۔ الحُلَيْمَات: - العلیا: چونے کا) سقفی قلم (stalactite)۔ ۔۔۔ السفلی (چونے کا) فرشی قلم (Stalegmite)۔

○ حَلَمَ ُ حُلْمًا عن / ب: کا خواب دیکھنا۔ فی ان: خواب دیکھنا کہ وہ ہوگا ہو جائے گا کر رہا ہوگا وغیرہ (مستقبل میں)۔ - ب پر غور و فکر کرنا، سے عالم محویت میں جانا۔ - : بالغ ہونا۔ حَلُمَ ُ حِلْمًا:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نرم ہونا، دھیما ہونا، بردبار ہونا۔ حَلُمَ ـُ حِلْمًا: نرم ہونا، دھیما ہونا، بردبار ہونا۔ حُلُم جمع اَحْلام: خواب (جمع) خیالی دنیا، خوابوں کی دنیا۔ حُلُمِی: خواب کا، خواب کے متعلق۔ حُلُم: جنسی بلوغت، بلوغت، سن بلوغت۔ جوان ہونا۔ بَلَغَ الحُلُمَ: بالغ ہو جانا جنسی طور پر بالغ ہونا، سن بلوغت کو پہنچنا۔ حِلْم جمع حُلُوم و اَحْلام: نرمی، دھیما پن شرافت، بردباری، رحم دلی، برداشت، صبر، شفقت، بخشش، عفو و کرم، بصیرت، دقت نظر، ادراک، نکتہ رسی، ذہانت، علم، سمجھ، فہم و فراست، عقل۔ صِغَارُ الاحلام: سادہ لوح لوگ، سادہ لوگ۔ حَلَم اسم جنس واحد حَلَمة: چچڑ، چھوٹا سا کیڑا، سرپستان، بھٹنی، چوچی، جانوروں کا تھن۔ حَلَمِیّ: طفیلی (پودا یا کیڑا) سرپستان کی شکل کا، تھن کی شکل کا۔ حَلِیم جمع حُلَمَاء: نرم، دھیما، بردبار، شریف، صابر۔ حَلُوم و حَالُوم: مصری پنیر کی ایک قسم۔ حَالِم جمع حَالِمُون: خواب دیکھنے والا۔ مُحْتَلِم: جنسی طور پر بالغ، جوان ہونے والا، شادی بیاہ کے قابل۔

حلا: ۱۔ حَلَا ـُ حَلَاوَةً و حُلْوَانًا: میٹھا ہونا — تِ الفاكهةُ: پھل کا پکنا۔ — لهُ الشيءُ: کے لئے لذیذ ہونا صفت: حُلْو۔ — الشيءَ: کو میٹھا یا شیریں بنانا۔ حَلُوَ ـُ حَلَاوَةً و حُلْوانًا: میٹھا ہونا۔ — ت الفاكهةَ: پھل کا پکنا۔ حَلِيَ ـَ حَلَاوَةً و حُلْوانًا: میٹھا ہونا۔ — ت الفاكهةُ: پھل کا پکنا، حَلَّى الشيءَ تَحْلِيَةً: کو میٹھا بنانا، شیریں بنانا۔ حالَى مُحَالَاةً الرجلَ: سے خوش طبعی کرنا۔ اَحْلَى اِحْلَاءً هُ: کو میٹھا پانا یا بنانا یا کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ مايُمِرُّ ولا يُحْلِي: وہ کڑوی میٹھی کوئی بات نہیں کرتا یا اچھا برا کوئی کام نہیں کرتا۔ تَحَلَّى و اِسْتَحْلَى الشيءَ: کو میٹھا پانا۔ اِحْلَوْلَى الشيءُ: چیز کا میٹھا ہونا۔ — الشَّيءَ: کو میٹھا پانا۔ الحُلْو: میٹھا، شیریں، خوش مزہ، لذیذ۔ الحَلْوَى وا الحَلْوَاء جمع حَلَاوَى: میٹھا پھل (ط): حَلْوا۔ الحَلْوانِيّ: حلوا بنانے یا بیچنے والا۔ الحَلَاوَة (ط): ایک قسم کا حلوا۔ الحَلِيَ: لذیذ اور میٹھا۔

۲۔ حَلَا ـُ وحَلِيَ ـَ حَلَاوَةً و حُلْوَانًا منه بخير: سے بھلائی و خیر پانا۔ کہا جاتا ہے۔ حَلَاهُ حُلْوانه: اس نے اس کو عوض و بدلہ دیا۔ الحُلْوان: دلال یا کاہن کی اجرت، عطیہ۔

۳۔ حَلَا ـُ حَلَاوَةً و حُلْوانًا هُ كذا او بكذا: کو کوئی چیز دینا۔ حَلِيَ ـَ حَلَاوَةً و حُلْوانًا: اچھا یا بھلا معلوم دینا۔ کہا جاتا ہے۔ حَلِيَ في عيني و بعيني: وہ میری آنکھوں میں بھلا لگا۔ تَحَلَّتِ المرأةُ: عورت کا زیور پہننا۔ کہا جاتا ہے۔ تَحَلَّى فلانٌ بماليس فيه: فلاں شخص نے خود کو ایسی چیزوں سے آراستہ کیا جو اس میں موجود نہیں۔ تَحَالَى: مٹھاس اور تعجب کا اظہار کرنا۔ الحُلْو: خوبصورت۔ الحُلْوُ من الرجال: دیکھنے میں اچھا لگنے والا۔ ناقةٌ حَلِيَّةٌ: پوری حلاوت والی اونٹنی۔

۴۔ حَلَا ـُ حَلْوًا و حُلْوانًا هُ: سے کچھ یا سب مہر کی وصولی کی شرط پر اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرنا۔

۵۔ الحَلَاءَة والحَلَاوَة والحَلَاواء و الحُلاوَى جمع حَلَاوَى مثنٰی القفا: گدی کا درمیانی حصہ۔

حَلي: ۱۔ حَلَى ـِ حَلْيًا المرأةَ: عورت کے لئے زیور بنانا، عورت کو سنوارنا، آراستہ کرنا۔ حَلِيَ ـَ حَلْيَات المرأةُ: عورت کا زیور پہننا صفت۔ حالٍ و حَالِية جمع حَوَالٍ۔ حَلَّى تَحْلِيَةً المرأةَ: عورت کو زیور پہنانا یا اس کے لئے زیور بنانا۔ — الشيءَ: کو زینت دینا۔ تَحَلَّى: مزین و آراستہ ہونا، زیور پہننا۔ الحَلْيُ جمع حُلِيّ وحِلِيّ و الحِلْيَة جمع حِلًى و حُلًى (خلاف قیاس): زیور (سونے چاندی وغیرہ اور قیمتی پتھروں کا) جو زینت و آرائش کے لئے پہنا جاتا ہے۔ حِلْيَةُ الانسان: انسان کا رنگ روپ اور ظاہری شکل و صورت۔ الحَالِيَة من الاشجار: ہرا بھرا پھل دار درخت۔

۲۔ حَلِيَ: دیکھو حلا۔

۳۔ الحَلَى (طب): بچوں کے مونہوں پر نکلنے والی پھنسیاں۔ المَخْلِيّ: خشک۔

○ حَلُوَ ـُ وحَلِيَ ـَ وحَلَا ـُ حَلَاوَةً و حُلْوانًا: میٹھا ہونا، — لِ: کے لئے خوشگوار ہونا خوش آئند ہونا، مرغوب ہونا، پسندیدہ ہونا، عمدہ ہونا، نفیس ہونا، پر لطف ہونا، سہانا ہونا، دل پذیر ہونا، موافق یا مطابق ہونا حَلَالَهُ الشيءُ: اس نے اس سے لطف اٹھایا۔ حلالہ ان: اسے اس بات سے خوشی ہوئی کہ، اسے یہ بات پسند آئی کہ۔ حَسْبَما يَحْلُولہ: کی مرضی پر، جیسے وہ چاہے۔ حَلَّى ـِ: آراستہ کرنا، سجانا، آرائش کرنا، سنگار کرنا، عزت بخشنا مشرف کرنا۔ حَلِيَ ـَ ب: سے آراستہ ہونا، مزین ہونا۔ حَلَّى ہ: کسی چیز کو میٹھا کرنا۔ — ہ/ ہ ب: کو سے سجانا، مزین کرنا، زینت دینا، کی سے تزئین کرنا، کو کوئی چیز پہنانا، کو کچھ دینا، مہیا کرنا فراہم کرنا۔ تَحَلَّى ب: سے آراستہ ہونا، مزین ہونا سنگار کرنا، مشرف ہونا، کوئی چیز ودیعت کیا جانا، فراہم کیا جانا، بہم پہنچایا جانا۔ اِسْتَحْلَى ہ: کو میٹھا، خوشگوار، خوش آئند، لذیذ پانا، کو پسند کرنا، سے خوش ہونا۔ حَلًا: مٹھاس، خوش گواری، پسندیدگی۔ حُلْو: میٹھا خوشگوار، خوش آئند، عمدہ، دل پسند، دلفریب، دلربا۔ من موہنا، مسرت بخش، دلکش، مسرت افزا، دلچسپ، خوبصورت حلو الحديث: دلچسپ پیرائے میں کہانیاں بنانے والا وہی شخص، پر لطف دلچسپ، دل بہلانے والا۔ الغُدَّةُ الحُلْوَة: پیٹ کے نیچے کے حصہ کا ایک غدود، لبلبہ۔ حَلِي جمع حُلِي: زیور۔ چھوٹا سا سستا زیور۔ حِلْيَة جمع حِلًى وحُلًى: سجاوٹ، آرائش، آراستگی، تزئین، زیور، آرائش کی چیز، بناؤ سنگار کا سامان، سامان آرائش، بناؤ سنگار کی چیزیں، شاندار زیور یا لباس۔ حَلْوَى جمع حَلَاوَى: ٹافی، کھانڈ کی مٹھائی، مٹھائیاں، مٹھائی، شیرینی، کیک، پیسٹری، حَلْوَاء: ٹافی، کھانڈ کی مٹھائی، مٹھائیاں، مٹھائی، شیرینی، کیک، پیسٹری حَلْوَيَات و حَلَاوِيَات: مٹھائیاں، میٹھی پیسٹری، ٹافیاں، کھانڈ کی مٹھائیاں، کیک، پیسٹری، مٹھائیاں، شیرینی۔ حَلَاوة: مٹھاس، مٹھائیاں، شیرینی، کیک پیسٹری۔ حسن جمال، آن شان، عشوہ طرازی، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دل آویزی، شائستگی، پاکیزگی، نفاست، سمجھ، زیرکی ہوشمندی، عطیہ، فدیہ حُلْوَان: عطیہ، تحفہ، بخشیش، انعام، حَلْوَانِي و حَلْوَانِي: مٹھائی فروش، حلوائی، کینڈی فروش، پیسٹری بنانے والا۔ ما اَحْيَلَى: اوہ، وہ کتنا میٹھا ہے۔ ما احيلاہ: واہ، خوب، کتنا میٹھا ہے۔ تَحْلِية: سجاوٹ، آرائش آراستگی، تزئین۔ زیور، زیبائش، مُحَلًّى: میٹھا، میٹھا کیا ہوا۔ — ب: سے سجا ہوا، آراستہ، سجا دھجا ہوا آرائش کیا ہوا، سنگار کیا ہوا زیبائش کیا ہوا، خوبصورت یا خوشنما بنایا ہوا۔

حمّ: ۱۔ حَمَّ ـُ حَمًّا التنُّورَ: تنور کو گرم کرنا۔ الشحمةَ: چربی پگھلانا، — الماءَ: پانی گرم کرنا۔ ـَ حَمَمًا الماءُ: پانی کا گرم ہونا۔ حَمَّمَ الماءَ: پانی کو گرم کرنا۔ — الرجلَ: کا کوئلہ سے منہ کالا کرنا۔ — فلانًا: کو گرم پانی سے نہلانا۔ اَحَمَّ الماءَ: پانی کو گرم کرنا۔ اِحْتَمَّ: مضطرب ہونا، پریشان ہونا، ہلچل کی حالت میں ہونا۔ تَحَمَّم بالماء: پانی سے غسل کرنا۔ اِسْتَحَمَّ: پانی سے غسل کرنا، حمام میں داخل ہونا، پسینہ والا ہونا۔ حَمُّ الظَّهِيرة: دوپہر کے وقت شدت کی گرمی۔ الحَمَّة: گرم پانی کا چشمہ۔ الحِمَّة: پسینہ۔ الحُمَم واحد حُمَمة: آگ میں جلی ہوئی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہر شئے۔ لاوا۔ راکھ۔ صارت الفتیان حُمَماً: نوجوان راکھ ہو گئے۔ یہ ضرب المثل اس وقت کہی جاتی ہے جب کسی متوقع بات سے مایوسی ہو جائے۔ الحَمِیم جمع حَمَائِم: گرم پانی۔ ٹھنڈا پانی (ضد) پسینہ۔ چنگاری جس سے دھونی دی جائے۔ گرمی (دن کی)، سخت گرمی کے بعد بارش۔ الحَمِیمَة جمع حَمَائِم: گرم پانی، گرم کیا ہوا دودھ۔ المِحَمّ: پانی گرم کرنے کا برتن۔ الحَمّام جمع حَمّامات: نہانے کی جگہ (زیادہ تر مذکر استعمال ہوتا ہے)۔ حَمّام ماریا: آگ پر ابلتے پانی میں اس وقت تک رکھنا جب تک اس میں رکھی چیز پانی کی گرمی سے پک نہ جائے۔ الحَمّامِیّ: حمام کا مالک، حمام کا محافظ۔ المُستَحَمّ: نہانے کی جگہ۔

۲۔ حَمَّ ـُ حَمًّا الارتحالَ: کوچ جلدی کرانا۔ حُمَّ الشیءُ: قریب ہونا۔ اَحَمَّ الشیءُ: قریب ہونا۔

۳۔ حَمَّ ـُ حَمًّا اللّٰهُ له کذا: کے لئے اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز مقدر کرنا۔ حُمَّ الامرُ: کسی معاملہ کا فیصلہ کیا جانا۔ – له کذا کے لئے کچھ مقدر کیا جانا۔ اَحَمَّ اللّٰه له کذا: اللہ تعالیٰ کا کسی کے لئے کوئی چیز مقدر کرنا۔ الحُمَّة جمع حُمَم و حِمَام: مقدر میں لکھی ہوئی اور فیصل شدہ چیز۔ حُمَّةُ الفراق: اسی سے ہے۔ کہتے ہیں۔ عجلت بِنَا وبِکُمْ حُمَّةُ الفراق: تقدیر میں لکھے ہوئے فراق نے ہمارے اور تمہارے ساتھ جلدی کی۔ الحِمَّة: موت۔ المَحْمُوم: مقدر میں لکھا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ نَزَلَ به القضاء المَحْمُوم: اس پر قضائے مقدر آ پڑی۔ اسی طرح القضاء الحتوم بھی لکھی ہوئی اور مقدر قضا کے معنی میں مستعمل ہے۔

۴۔ حَمَّ ـُ حَمًّا الامرُ فلاناً: کو غم میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: حَمَّ حَمَّهُ: اس نے اس کی طرح قصد کیا۔ اَحَمَّ الامرُ فلاناً: کو غم میں ڈالنا۔ اِحْتَمَّ: غم کی وجہ سے نیند نہ کرنا۔ – تِ العینُ: آنکھ کا بغیر درد کے بیدار رہنا۔ الحَامَّة: کسی شخص کے خاص لوگ جیسے اہل وعیال وغیرہ۔ الحَمِیم جمع اَحِمَّاء: قریبی عزیز و رشتہ دار۔ دوست۔ کہا جاتا ہے۔ هو حَمِیمٌ بالحاجة: وہ اپنی ضرورت پر توجہ دینے والا ہے، اپنی حاجت سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے۔ الاحم جمع حُمّ: بہت خاص، بہت قریبی۔ المُحِمّ: قریب۔ نزدیک۔

۵۔ حَمَّ ـَ حَمَمًا: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ حَمَّمَ الشیءَ: کو کالا کرنا، سیاہ کرنا۔ – الغلامُ: لڑکے کی داڑھی اگنے لگنا۔ – الرأسُ: مونڈے جانے کے بعد سر کے بال اگنا، نکلنا۔ – المکانُ: کسی جگہ میں سبزہ اگنے لگنا۔ اَحَمَّ الشیءَ: کو کالا کرنا، سیاہ کرنا۔ تَحَمَّمَ: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ الحَمَّة جمع حُمَم و حِمَام: سیاہی، سیاہی و سبزی کے درمیان رنگ۔ الحُمَم واحد حُمَمة: کوئلہ۔ الاحَمّ جمع حُمّ: سیاہ۔ سفید (ضد)۔ الیَحْمُوم: سیاہ۔ دھواں۔

۶۔ حُمَّ الرجلُ: بخار میں مبتلا ہونا، کو بخار آنا۔ اَحَمَّهُ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا بخار میں مبتلا کرنا۔ المکانُ: کسی جگہ بخار بہت پھیل جانا۔ الحُمَّی جمع حُمَّیات: بخار۔ الحُمَّة جمع حُمَم و حِمَام: بخار۔ الحُمَام (طب): جانوروں کا بخار۔ خصوصاً گھوڑوں کا بخار۔ المَحْمُوم: بخار میں مبتلا۔

۷۔ حَمَّمَ المرأةَ: عورت کو طلاق کے بعد کچھ سامان بطور معاوضہ دینا۔

۸۔ حَمُّ الشیء و حُمُّهُ: چیز کا بڑا حصہ کہا جاتا ہے۔ ماله حَمٌّ من ذلك او منه: اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ الحَامَّة: عمدہ اونٹ۔ الحَمِیمة جمع حَمَائِم: عمدہ نسلی اونٹ۔ الحَمَام واحد حَمَامَة جمع حَمَائِم و حَمَامَات (ح): کبوتر۔ حمامة مذکر و مونث دونوں کے لئے مستعمل ہے کیونکہ اس میں تاء تانیث کی نہیں بلکہ وحدت کی ہے۔ بہت دفعہ حَمَام کا اطلاق مفرد پر کیا جاتا ہے۔ حَمَامُ الزاجِل او الزَجَّال: نامہ بر کبوتر۔ ساق الحَمَام و رِعْیُ الحَمَام (ن): دو قسم کی گھاس کے نام۔ بیضُ الحَمَام: بڑے دانے والا انگور۔ عُنُقُ الحَمَام: سرخ و نیلے رنگ کے درمیان کا رنگ۔ الحُمَام: سردار، شریف۔ الاحَمّ: جمع حُمّ: پھل نہ رکھنے والا تیر۔ المُحَام: ثابت۔ الحُمَامَی (ن): ایک قسم کی گھاس۔ چڑے کی سرخی۔

۹۔ حَمْحَمَ و تَحَمْحَمَ البِرذَوْنُ او الفرسُ: گھوڑے کا ہنہنانا۔ تَحَمْحَمَ: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ الحِمْحِم والحُمْحُم (ح): ایک پرندہ (ن) گاؤزبان الحَمَاحِم واحد حَمَاحِمَة (ن): چوڑے پتے کا پودینہ۔

○ حَمّ جمع اَحْمَاء: خسر، سسر (جمع) بیوی کے رشتہ دار، سسرال والے حَمَا جمع حَمَوَات: ساس، خوش دامن۔ حَمَّ ـَ حَمًّا ہ: کو گرم کرنا۔ حُمَّ: کو بخار ہونا، کا بخار میں مبتلا ہونا، کو حرارت ہونا۔ حُمَّ له ذلك: وہ اس کے لئے مقدر تھا، وہ اس کی قسمت ہے، قدر یا۔ حَمَّمَ... دھونا، نہلانا۔ اَحَمَّ ہ: کو گرم کرنا، اِسْتَحَمَّ: نہانا، غسل کرنا۔ حَمَّة: گرم (پانی کا) چشمہ۔ حُمَّة: سیاہی، سیاہ فام ہونا، بخار، حُمَم واحد حُمَمَة: کوئلہ، جل کر کوئلہ ہو جانے والی چیز، جلا کر کوئلہ بنائی ہوئی چیز، کاربن بنائی چیز، راکھ، ادھ جلا کوئلہ یا لکڑی، لاوا، آتش فشاں پہاڑ کا پگھلا ہوا مادہ۔ حُمَّی (مونث) جمع حُمَّیات: بخار، بخار کی گرمی۔ الحُمَّی التیفودیة اور الحُمَّی التِیفِیَة: ٹائیفائڈ بخار۔ حُمَّی الدِقِ: تپ دق کا بخار۔ حُمَّی الرِبع: چوتھیا بخار، باری کا بخار۔ الحُمَّی الراجعة: عود کر آنے والا بخار، الحُمَّی الصَفراء یا الحُمَّی الصَفراوِیَة: وہ بخار جس کے ساتھ یرقان بھی ہو جاتا ہے۔ حُمَّی الغِبّ: باری کا یا تیسرے دن کا بخار۔ الحُمَّی الفَحْمِیة: پھوڑے پھنسیاں نکل آنے پر ہو جانے والا بخار۔ الحُمَّی القِرمِزِیَة: لال بخار۔ حُمَّی القَش: تپ کاہی۔ الحُمَّی القُلاعِیة: منہ اور پاؤں کا بخار۔ الحُمَّی المُخِیة الشَوکِیَّة: گردن توڑ بخار، (حرام مغز کی جھلی گلے ورم کی وجہ سے) الحُمَّی النِفاسیة: پرسوت کا بخار۔ الحُمَّیّ النَمَشِیة: بخار جس سے داغ پڑ جائیں۔ حُمِّیّ: بخار کا، بخار کا سا، بخار سے متعلق، بخار جیسی حالت والا۔ حَمَام: اسم جنس واحد حَمَامَة جمع حمامات، حَمَائِم: کبوتر، قمری، فاختہ، حَمَامُ الزاجل: نامہ بر کبوتر ساق الحمام (ن): گاؤزبان۔ حِمَام: موت، انجام، حشر۔ حَمَّام جمع حَمَّامات: غسل خانہ، حجام، پیراکی کا تالاب، معدنی چشمہ، جوہڑ۔ حَمَّام شمس: دھوپ کھانا۔ حَمَّاماتٌ بَحرِیَّةٌ: ساحلی تفریح گاہیں۔ حَمِیم جمع اَحِمَّاء: جگری یا قریبی دوست، قریبی، گہرا، دلی، گرم پانی۔ اَحَمّ مونث حَمَّاء جمع حُمّ: سیاہ، کالا۔ حِمَمّ: گرم پانی کی کیتلی، معلق کڑھاو، کڑاہی، دیگ۔ (مشین وغیرہ کا) پانی گرم کرنے والا حصہ، بائلر، حمام۔ استحمام: غسل کرنا، غسل۔ مَحْمُوم: بخار کا سا، بخار میں مبتلا، بدحواس، بیماری سے سرخ، ہیجان خیز، پر جوش مشتعل۔

حما: حَمَا ـَ حَمْأً البئرَ: کنوئیں سے کیچڑ نکالنا۔ حَمِیءَ ـَ حَمَأً و حَمَأَ الماءُ: پانی میں کیچڑ ملا ہوا ہونا صفت: حَمِیءٌ۔ اَحْمَأَ البئرَ: کنوئیں میں کیچڑ ڈالنا۔ الحَمَأ و الحَمْأَة: سیاہ کیچڑ۔ الحَمْءُ والحَمَأُ والحَمْوُ و الحَمَا (ہمزہ کے بغیر) جمع احماء: شوہر کا باپ، خسر۔ دیور، جیٹھ وغیرہ۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حَمَأَ ۔ حَمْأً ہ: کنواں صاف کرنا، کنویں سے کیچڑ نکالنا۔ حَمَا و حَمَا: کیچڑ، دلدل، غلاظت۔ موری کی کیچڑ، چکنی کیچڑ۔ حَمِئَ علی: سے ناراض ہونا یا ہو جانا، برہم ہونا، غضبناک ہونا، آپے سے باہر ہونا۔

حمت: ۱۔ حَمَتَ ۔ حَمْتَاہُ اللّٰہُ علیہ: کو اللہ تعالیٰ کا کسی پر ڈالنا، عائد کرنا۔ حَمُتَ ۔ حُمُوتَۃً الیومُ: دن کا بہت گرم ہونا۔ الحَمْتُ من الایام: سخت گرم دن۔ الحَمِیت: شدید، سخت۔ کہا جاتا ہے۔ غضبٌ حمیتٌ: سخت غصہ۔

۲۔ حَمِتَ ۔ حَمَتًا الجوزُ وغیرُہُ: اخروٹ وغیرہ کا خراب ہونا۔

۳۔ تَحَمَّتَ اللونُ اولطعمُ: رنگ یا مزہ کا صاف اور خالص ہونا۔ الحَمْتُ والحامِتُ من التمر: نہایت شیریں کھجور۔ کہا جاتا ہے۔ تمرٌ حَمِیتٌ و عسلٌ حَمِیتٌ: صاف اور خالص مزہ کی کھجور اور شہد۔

حمج: حَمَّجَ ت العینُ: آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا، دھنسنا۔ الوجہُ: غضب وغیرہ سے چہرے کا رنگ بدلنا۔ الیہ: کو تیز نظر سے دیکھنا۔ عینہُ: گھور کر دیکھنا۔

حمد: ۱۔ حَمِدَ ۔ حَمْدًا و مَحْمَداً و مَحْمِدًا و مَحْمَدَۃً و مَحْمِدَۃً ہُ: کی تعریف کرنا۔ الشیءَ: چیز کا تعریف والا ہونا۔ حَمَدَ ۔ ہُ: کی تعریف کرنا، کا شکریہ ادا کرنا۔ کہا جاتا ہے: حمدت الیکَ اللّٰہَ: میں تمہارے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہوں یا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ بجالاتا ہوں۔ حَمَّدَ اللّٰہَ: اللہ تعالیٰ کی بار بار تعریف کرنا اور الحمدللہ کہنا۔ اَحْمَدَ: قابل تعریف و ستائش کام کرنا۔ الشیءُ: لائق ستائش ہونا، قابل تعریف ہونا۔ الشیءَ: کو قابل ستائش پانا۔ ۔ہُ: کے فعل و تصرف پر راضی ہونا کا مستحق تعریف ظاہر ہونا۔ تَحَمَّدَ بالشیءِ علی فلانٍ پر کسی کو احسان جتانا۔ کہا جاتا ہے: انہ یَتَحَمَّدُ الناس بفضلہ: وہ لوگوں کے سامنے اپنا قابل تعریف ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اِسْتَحْمَدَ اللّٰہُ الی خلقہ: اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے ان پر اپنے احسان و انعام کی وجہ سے تعریف کرنے کا تقاضا کرنا۔ الحَمْد (مص): تعریف۔ تعریف کیا ہوا، قابل تعریف و ستائش۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ حَمْدٌ و امرأۃٌ حَمْدَۃٌ: تعریف کیا ہوا مرد اور تعریف کی ہوئی عورت۔ الحَمِید و الحَمُود مونث حَمِیدَۃ: تعریف کرنے والا، تعریف کیا ہوا۔ حَمَادِلَہُ: بمعنی حمداً لہُ: اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحَمَّاد و الحُمَدَۃ: بہت تعریف کرنے والا۔ المَحْمَدَۃ جمع مَحَامِد: قابل تعریف کام۔ المُحَمَّد: بہت سی قابل تعریف خصلتوں والا۔ لوگوں نے حَمَد و حامد و مُحَمَّد و مَحْمُود و حمید نام رکھے۔

۲۔ حَمِدَ ۔ حَمْدًا و مَحْمَدًا و مَحْمِدًا و مَحْمَدَۃً و مَحْمِدَۃً ہُ علی امر: کو کسی کام کا بدلہ دینا۔

۳۔ الحُمَاد: غایت، انتہائی کوشش۔ کہا جاتا ہے: حُمَادُك ان تفعل کذا: تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ ایسا کرو۔

○ حَمِدَ ۔ حَمْداً ہ علی / ہ: کی پر تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا، حمد کرنا، کو پر بڑھانا، کی پر تعریف کے پل باندھنا۔ حَمَّدہ: کی بہت تعریف کرنا۔ حَمْد: تعریف، ستائش، حمد و ثنا۔ الحمدُ للّٰہ: خدا کا شکر ہے۔ سکھ اور خوشی کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری۔ حَمِید۔ قابل تعریف، قابل ستائش، مستحسن پسندیدہ، سراہنے کے قابل، تعریف کیا گیا۔ اَحْمَد: زیادہ مستحسن، زیادہ قابل تعریف، زیادہ سراہنے کے قابل، زیادہ پسندیدہ۔ الشریعۃ الاحمدیۃ: محمدی قانون۔ مَحْمَدَۃ جمع مَحَامِد: قابل تعریف کام۔ مَحَامِد: مدحین، تعریفیں۔ مَحْمُود: تعریف کیا گیا، قابل ستائش قابل تعریف، مستحسن۔ مُحَمَّد: تعریف کیا گیا، قابل تعریف، قابل ستائش، مستحسن، مُحَمَّدِیّ: محمد ﷺ کے متعلق یا ان سے منسوب۔

○ حَمْدَلَ: الحمدللہ کہنا۔ حَمْدَلَۃ: الحمدللہ کہنا۔

حمر: ۱۔ حَمَرَ ۔ حَمْرًا الجلدَ: کھال کھرچنا۔ الشاۃَ: بکری کی کھال اتارنا۔ اِنْحَمَرَ ما علی الجلد: کھال کے اوپر کی چیز کھرچا جانا۔ الحَمِر من الغیث: سخت بارش جو زمین کو چھیل ڈالے۔ المِحْمَر جمع مَحَامِر: چمڑا چھیلنے کا آلہ۔

۲۔ حَمَرَ ۔ حَمْراً الرأسَ: سر مونڈنا۔

۳۔ حَمِرَ ۔ حَمَراً الفرسُ: گھوڑے کا بدہضمی والا ہونا، بدبودار منہ والا ہونا۔ صفت: حَمِر۔ اَحْمَرَ الدّأبۃَ: جانور کو اتنا چارہ دینا کہ اس کے منہ کی بو متغیر ہو جائے۔

۴۔ حَمِرَ ۔ حَمَراً الرجلُ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔

۵۔ حَمَّرَ الجلدَ: چمڑے کو خراب رنگنا۔

۶۔ حَمَّرَ الشیءَ: کو سرخ رنگ سے رنگنا۔ اَحْمَرَ: سرخ بچے والا ہونا۔ اِحْمَرَّ اِحْمِراراً: سرخ ہونا۔ اِحْمارَ اِحْمِیراراً: بتدریج زیادہ سرخ ہونا۔ الحُمَر: ایک قسم کی رال جس کو عام لوگ الحُمَّر کہتے ہیں۔ — والحُمَّر واحد حُمَرَاۃ و حُمَّرَۃ (ح): سرخ رنگ کا پرندہ۔ الحُمَّرَۃ (ح): پرندہ۔ الحُمْرَۃ: سرخ رنگ، رنگ سرخ کرنے کا رنگ۔ (طب): ایک وبائی مرض جس سے بخار ہو جاتا ہے اور جلد پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اس بیماری کے جراثیم جسم میں زخم یا خراش سے داخل ہوتے ہیں۔ (ن): ایک زہریلا پودا۔ آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے اور طبی امور میں خصوصاً آنکھوں کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الأَحْمَر جمع احَامِر: سرخ رنگ کی چیز، جس کا رنگ سرخ ہو۔ جمع حُمْر و حُمْران: سرخ رنگ میں رنگا ہوا۔ سونا، زعفران، گوشت، شراب، کہتے ہیں: نحنُ من اہل الاسودین لا من اہل الاحمرین: ہم کھجور و پانی والے ہیں، گوشت و شراب والے نہیں۔ الموت الأحمر: قتل۔ (یہ خونریزی یا سخت موت سے کنایہ ہے)۔ الحَمْراء: الأَحْمَر کا مونث، سخت سال۔ الأَحْمَرِیّ: بہت سرخ۔ الیَحْمُور: سرخ (ح): ایک قسم کا پرندہ۔

۷۔ حَمَّرَہُ: کو گدھا کہنا۔ الحِمار جمع حَمِیر و اَحْمِرَۃ و حُمُر و حُمُور و حُمُرات مونث: حِمارۃ جمع حَمَائِر: گدھا۔ پالتو ہو یا وحشی و جنگلی۔ جنگلی گدھے کو حمار وحش، حمار الوحش اور الحمار الوحشی کہا جاتا ہے۔ حِمارُ الزَرَد (ح): جنگلی سفید رنگ اور سیاہ دھاریوں والا گدھا۔ الحِمار البرّی (ح): گدھے اور گھوڑے کے مابین ڈھانچے والا جانور جو بڑے گھاس دار میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے۔ المِحْمَر جمع مَحَامِر (ح): دوغلا گھوڑا۔ کنجوس آدمی۔ الحَمَّارَۃ واحد حَمَّارَ (حمال و بغال کی طرح): (سفر میں) گدھے والے، دوغلا گھوڑا۔ الیَحْمُور (ح): جنگلی گدھا۔ (ح) گورخر۔

۸۔ اِحْمَرَّ الباسُ: تکلیف کا بڑھ جانا۔ الحَمَّارۃ جمع حَمَار: گرمی کی شدت، الحَمْراء: گرمی کی شدت۔ الحِمِرّ: گرمی کی سخت تیزی۔ برا شخص۔ کہا جاتا ہے: اِنّ فلانا لَفِی حِمِرِّہ: فلاں شخص تو اپنی برائی اور سختی میں ہے۔

۹۔ حَمِارَۃُ القدم: پشت قدم۔ الحَمْراء: تین لکڑیاں جن کو ایک دوسرے سے باندھ کر اس پر دودھ کا مشکیزہ یا پانی کی صراحی وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس کو الحَمائر بھی کہا جاتا ہے۔

○ حَمَّرَہ: کو سرخ کرنا، سرخ رنگ میں رنگنا، کو بھوننا، تلنا، آگ میں رکھ کر بھورا کرنا، اِحْمَرَّ: سرخ ہونا، شرمانا، چہرے پر سرخی دوڑ جانا حُمَر: اسفالٹ (asph alt۔) حُمَری: اسفالٹ، اسفالٹ کا یا اسفالٹ کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

متعلق، کولتار، لک، کولتار والا۔ حَـمْـرَة: سرخی، سرخ رنگ، سرخ رنگ لگانا، سرخ گلگونہ، اینٹوں کی خاک، اینٹوں کے روڑے۔ زہرباد۔ حِمار جمع حَمِير و حُمُر و اَحْمِرَة: گدھا۔ خر۔ حمار الوحش اور حـمـار وحشـی: جنگلی گدھا، گورخر، سَـمُّ الـحِمار: ایک جھاڑی جس کے پھول سرخ، سفید یا گلابی پیازی ہوتے ہیں اور پتے سخت ہوتے ہیں۔ حَـمارة جمع حَمَائِر: گدھی۔ حُـمُور: ہرہر سرخ رنگ، سرخی حَمَّار جمع حَمَّارة: گدھا ہانکنے والا۔ اَحْمَر مونث حَمْراء جمع حُمْر: سرخ، سرخ رنگ کا، گلابی، پیازی۔ دون الاحمر و تحت الاحمر: ماورائے احمر، تحت احمر (شعاعیں)۔ البَحْرُ الاحْمَر: بحر احمر الـصـليب الاحمر: ریڈ کراس۔ الـمـوت الاحـمـر: تشدد آمیز موت۔ الهوَىَ الاحمر: جنسی اختلاط۔ الاحـمـران: دو سرخ چیزیں، شراب اور گوشت الاسـود و الاحمر: سیاہ و سرخ، کل نسل انسانی۔ احمر الشفاه: لپ سٹک خَـمْـراء: اناج کی ایک بیمار جو بالیوں کو سیاہ کر دیتی ہے۔ الـحـمـراء: غرناطہ کا قلعہ۔ یَـحْـمُـور: سرخ ہرن، چھوٹا ہرن، چکارا، جنگلی گدھا۔ اِحْـمِـرار: سرخ ہونا، شرمانا، چہرے پر سرخی دوڑ جانا سرخی، سرخ رنگ۔ مُحَمَّر: بھنا ہوا۔ بـطاطس مُحَمَّرة: تلے ہوئے آلو۔

حمز: حَمَزَ ـِ حَمْزًا الشفرةَ: چھری کو تیز کرنا۔ الخردلُ اللسانَ: رائی کا زبان میں چرپراہٹ پیدا کرنا۔ حَمُزَ ـُ حَمَازَةً: سخت ہونا۔ — الشراب: شراب کا چرپراہٹ ڈالنے والا ہونا، ترش ہونا۔ الحَمِيز: سخت۔ ذکی، تیزفہم۔ ظریف۔ حـامِزُ الفؤاد: خوش مزاج، خوش طبع، ظریف۔

○ حَمَزَ ـِ حَمْزًا: زبان کو چبھنا، لگنا، جلانا۔

حمس: حَمَسَ ـُ حَمْسًاه: کو غضبناک کرنا۔ حَمَّسَ و اَحْـمَـسَ هُ: کو غضبناک کرنا، برانگیختہ کرنا۔ جوش دلانا۔ تَـحَـمَّـسَ: کسی کام کے لئے جوش میں آنا۔ اِحْتَمَسَ: جوش میں آنا۔

۲۔ حَـمِـسَ ـَ حَمَسًا: مذہب یا لڑائی میں سخت ہونا، بہادر ہونا صفت: حَـمِـس۔ — الوغی: گھمسان کی لڑائی ہونا۔ — الامرُ: کام کا سخت ہونا، حَمُسَ ـُ حَمَاسَةً و حَمَسَ ـِ حَمْسًا: دلیر ہونا، بہادر ہونا۔ تَـحَمَّسَ: سختی کرنا، نافرمانی کرنا۔ تَحَامَسَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا۔ اِحْتَمَسَ الـقِـرنـان: حریفوں کا باہم جنگ کرنا، قتال کرنا، الـحُمْس: سخت جگہیں۔ الحَمَاس (ن) درخت۔ عند العامة: سختی، مخالفت، جنگ۔ الحَمَاسَة: کسی امر میں شدت، شجاعت۔ الحَمِيس: بہادر، دلیر، سخت الأَحْمَس مونث حَمْسَاء جمع حُمْس و اَحَامِس: مذہب یا جنگ میں سخت، شجاع، الأَحامِس و الـحُمْس من السنين: بہت سے سخت سال سنۃٌ حَمْسَاء: سخت سال۔

۳۔ حَـمَسَ ـُ حَمْسًا اللحمَ: گوشت بھونا۔ حَمَّسَ و اَحْمَسَ الدواء و نحوه: دوا وغیرہ کو نیم گرم کرنا، الحَمِيس: تنور۔ الحَمِيسَة (ط): بھونا ہوا کھانا۔

○ حَـمِـسَ ـَ حَمَسًا: شوق و سرگرمی سے کام کرنا، پرجوش ہونا، سرگرم ہونا، شائق ہونا، سرگرم و پرجوش ہو جانا ہیجان میں آنا، برانگیختہ ہونا، کٹر ہونا جوشیلا ہونا۔ تَـحَمَّس: بمعنی حَمِسَ نیز تَحَمَّسَ في: میں بہت پرجوش و سرگرم ہونا۔ لِ: کی جوش اور ولولہ سے تائید کرنا، حمایت کرنا جوش و ولولہ سے کے حق میں بولنا، کی مکمل حمایت کرنا۔ حَـمِـس و اَحْمَس: پختہ، پکا، مخلص، سرگرم، پرجوش ثابت قدم، شائق، مختی، شوقین، سخت، شدید۔ حَـمَاس و حَـمَاسَة: جوش، ولولہ، گہری دلچسپی، غصہ، گرم جوشی، سرگرمی، لگن، دھن، تپش، شوق تعصب، جانفشانی۔ حَـمَاسي: سرگرم، پرجوش، یکدم بھڑک اٹھنے والا، جوشیلا، متعصب، ہیجان خیز، برانگیختہ کرنے والا، سنسنی خیز، بجلی کی سی لہر دوڑا دینے والا۔ تَحَمُّس لِ: کے لئے پختہ شوق، سرگرمی یا جوش، ولولہ یا گہری دلچسپی، تعصب، مُتَـحَـمِّس: پرجوش، سرگرم، متعصب، گرم جوش، یکدم بھڑک اٹھنے والا، سرگرم حامی یا ہیرو جوشیلا، کٹر یا متعصب حامی، مذہبی جوش والا۔

حمش: ا۔ حَـمَشَ ـُ حَمْشًاهُ: کو غضبناک کرنا، جوش دلانا۔ القومَ: کو غصہ سے چلانا، ہانکنا۔ ـِ حَـمْشًا و حَمْشَةً و تَحَمَّشَ و اِحْتَمَشَ و اِسْتَحْمَشَ: غضبناک ہونا۔ حَـمَّـشَ هُ: کو غضبناک کرنا، جوش دلانا۔ اَحْمَشَ هُ: کو غضبناک کرنا۔

۲۔ حَـمَـشَ ـُ حَمْشًا الشيءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، حَمَّشَ الشيءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔

۳۔ حَـمُـشَ ـُ و حَـمِـشَ ـَ حُمُوشَةً السَاقُ: پنڈلی کا باریک ہونا حَـمِـشَ ـَ حَمَشًا و حَمْشًا الرجلُ: باریک پنڈلیوں والا ہونا۔ صفت حَمْشٌ و حَمِشٌ و اَحْمَش جمع حِمَاش و حُمْش: کہا جاتا ہے: رجـال حِـمَاشُ الـسوق: باریک پنڈلیوں ... پنڈلیاں۔

۴۔ حَمَّشَ الشحمَ: چربی کو اس قدر پگھلانا کہ جلنے کے قریب ہو جائے۔ اَحْمَشَ النارَ: آگ میں ایندھن ڈال کر اس کو بھڑکانا۔ — القدرَ: ہانڈی کے نیچے بہت ایندھن لگانا یہاں تک کہ ہانڈی جوش میں آ جائے۔ الحربَ: جنگ بھڑکانا۔ الحَمِيش: پگھلی ہوئی چربی۔

○ حَمَشَ ـُ حَمْشًاه: کو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، اشتعال دلانا، غصہ دلانا، برافروختہ کرنا ہیجان میں لانا، طیش میں لانا، غضبناک کرنا۔ حَمْشَة: تانت۔

حمص: ا۔ حَـمَصَ ـُ حَمْصًا و حُمُوصًا الجرحُ: زخم کی سوجن اترنا صفت: حَـمِـيـص۔ — الـورمُ: سوجن اترنا۔ حَمَّصَ الدواءُ الجُرْحَ: دوا کا زخم کی سوجن اتارنا۔ — الحَبَّ: دانہ بھونا۔ تَـحَمَّصَ اللحمُ: گوشت کا خشک ہونا۔ الرجلُ: سمٹنا۔ اِنْحَمَصَ الورمُ: ورم کم ہونا۔ منه: سے سکڑنا، لاغر ہونا۔ الحِمِّص و الحِمَّص واحد حِمِّصة و حِمَّصة (ن): چنا۔ الـحَـمِـيـص: بھونا ہوا۔ المِحْمَصَة: دانے وغیرہ بھوننے کا آلہ۔

۲۔ حَـمَـصَ ـُ حَمْصًا و حُمُوصَاتِ الأُرْجُوحَةُ: جھولے کا ٹھہر جانا۔

۳۔ حَـمَـصَ ـُ حَمْصًا و حُمُوصَاتِ الدابَّةُ: جانور کا پسینہ سوکھ جانا۔

○ حَمَّصَ هُ: کو بھونا، تلنا، حِمِص و حِمَّص و حُمَّص و حُمِّص (اسم جمع واحد) حِمِصَة و حِمَّصة: مٹر، مٹر کے دانے۔

○ حِمص: وسطی شام کا ایک شہر۔

حمض: ا۔ حَـمَضَ ـُ حَمْضًا: کھٹا ہونا۔ حَمْضًا و حُمُوضًا الجَمَلُ: اونٹ کا نمکین و کڑوے پودے چرنا۔ حَمِضَ ـَ حَمَضًا و حَمُضَ ـُ حُمُوضَةً: کھٹا ہونا۔ حَمَّضَ و اَحْمَضَ الجَمَلُ: اونٹ کا نمکین اور کڑوے پودے کھانا۔ — الشيءُ: کھٹا ہونا۔ — الشيءَ: کو کھٹا کرنا۔ — الابلَ: اونٹوں کو نمکین اور کڑوے پودے کھلانا۔ کہا جاتا ہے: حَمَّضَ لنا في القِرَى: اس نے ہماری تھوڑی مہمانی کی۔ اَحْمَضَ المكانُ: جگہ کا نمکین اور کڑوے درختوں والی ہونا، صفت: مُحْمِض۔ الحامِض (فا): کھٹا کہا جاتا ہے: هو حامِضُ الفؤاد: وہ بگڑے ہوئے اور خراب دل کا آدمی ہے۔ حامِضُ الرئتين: کڑوے سانس والا۔ الحامِضَة: حامض کا مونث (طب): معدہ میں کسی چیز کا خراب ہو جانا۔ الحَمْض واحد

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حَمْضَة جمع حُمُوض (ز): نمکین اور کڑوا پودہ۔ والحامِض (ك): تیزاب، ترشہ (acid) الحوامض: کھٹی چیزیں حَمض او حامض الکبریت: گندھک کا تیزاب الحُمض النتریك: نائٹرک شورے کا تیزاب الحمض الکوریدریك، کلورائڈ گیس۔ الحمض الستریك: ترنجی ترشہ (یا تیزاب) الحمض الخلیك او الاستیك: سرکہ کا تیزاب acetic acid الحُمّاض او الأقصلیس (ن): کاسنی سے مشابہ پتے رکھنے والی ایک گھاس جو ترش اور کڑوی ہوتی ہے۔ واحد حُمّاضة: کھٹی گھاس حُمّاضُ الکبّاد: ترنج کا گودا۔ الحَمِیضة: جمع حُمُض و المَحمَض والمُحمِض: نمکین اور کڑوے پودے بکثرت اگانے والی زمین۔ الحَمضِیّات: لیموں کی طرح کے کھٹائی آمیز پودے۔ المُستَحمِض من اللبن: دیر میں جمنے والا دودھ۔

۲۔ حَمَضَ ـُ حَمْضًا به: کی خواہش کرنا۔ أحمَضَ تِ الجماعۃ: جماعت کا کسی دل خوش کن گفتگو یا تقریر میں لفاظی سے کام لینا۔ الحامِضة: کسی چیز کی خواہش۔ الحُمُضة: کھانے کی خواہش۔ الاحماض: پسندیدہ بات میں لگنا۔

۳۔ حَمَضَ ـُ حَمْضًا عنه: کو ناپسند کرنا: حَمَّضَ و أحمَضَ الشیءَ عنه: کو سے پھیر دینا۔ تَحَمَّضَ الرجلُ: ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا۔ الحَمْضة: سنتے ہی کسی چیز سے نفرت۔ کہا جاتا ہے: فؤادٌ حَمِضٌ و نفسٌ حَمْضة: سنتے ہی کسی چیز سے نفرت کرنے والا دل یا نفس۔ الاحماض: سنجیدگی سے تمسخر کی طرف منتقلی۔

○ حَمُضَ ـُ حُمُوضةً: کھٹا ہونا یا ہو جانا، حَمَّضَ ہ: کو کھٹا کر دینا، تیزابی بنانا، ترش کرنا، فوٹو، فلم وغیرہ کو کیمیاوی مسالے سے دھونا، کو آکسیجن سے مرکب کرنا حَمْض جمع اَحماض: ایسڈ، تیزاب، ترشی، ترشہ، حمض بَولِیّ: پیشاب کا تیزاب یا ترشہ uric ccid شجرٌ حَمْضِیّ: ترنجی درخت، حَمْضِیة جمع حَمْضِیات: ترنجی پھل۔ حُمُوضة: کھٹائی، ترشی، تیزابیت، ترشیت حموضت۔ مُوَلِّدُ الحُمُوضة: آکسیجن oxygen حُمّاض و حُمَیِّض: چوکا، کھٹی سبزی، کھٹی گھاس، کھٹا ساگ۔ تَحمِیض: کھٹا کرنا، ترش بنانا، تیزابی بنانا فوٹو، فلم وغیرہ کو کیمیاوی مسالے سے دھونا (development) اِحماض: ظریفانہ زبان، مذاقیہ گفتگو۔ حامض: کھٹا، ترش، تیزابی، ہلکی سی کھٹاس رکھنے والی چیز جمع حَوامض: تیزاب، ترشی، ترشہ۔ حامضٌ کِبریتِی: گندھک کا تیزاب (Sulphuric acid)۔ حامِضُ الفحم: تیزاب فحمی (Carbonic acid)۔

حمط: حَمَطَ ـِ حَمْطًا ہ: کو چھیلنا، کا چھلکا اتارنا۔ حَمَّطَ الکرمَ: انگور پر درخت سے سایہ کرنا۔ ـ الشیءَ: کو چھوٹا کرنا۔ ـ الرجلَ: کو خفیف سے مارنا۔ اسی سے یہ ضرب المثل ہے: اذا ضربت فلا تُحَمِّطْ: جب مارو تو اچھی طرح مارو۔ کیونکہ کم مارنا تادیب کا کام نہیں دیتا۔ الحَماطة جمع حَماط و حَمائط: حلق میں سوزش جلن (ن) انجیر سے مشابہ ایک درخت۔ دل کا نقطہ۔ بعض کے نزدیک دل کا خون۔

حمق: ۱۔ حَمِقَ ـَ و حَمُقَ ـُ حُمْقًا و حُمُقًا و حَماقةً: بیوقوف ہونا صفت: اَحمَق مونث حَمقاء جمع حُمق و حُمُق و حَمقَی و حَماقَی و حُماقَی۔ حَمَّقَ ہ: کو بیوقوف کہنا۔ اَحمَقَ ہ: کو بیوقوف پانا۔ ـ ت المرأۃ: عورت کا بیوقوف بچہ جننا۔ صفت: مُحْمِق و مُحمِقة، حامَقَ ہ: کو بیوقوفی پر مدد دینا۔ تحامَقَ و تَحَمَّقَ: بیوقوف بننا۔ اِنحمَقَ: بیوقوف ہونا۔ اِستحمَقَ: بےوقوف ہونا۔ ـہ: کو بیوقوف سمجھنا، بیوقوف شمار کرنا۔ الحُمُق (مص): بیوقوفی، شراب۔ الحَمِق: بیوقوف۔ الحَمُوقة و الحُمَیقة و الأُحموقة: بہت بیوقوف۔ المُحمِقات: وہ راتیں جن میں چاندنی شروع سے آخر تک رہے۔

۲۔ حَمِقَ ـَ حَمَقًا: ناراض یا غضبناک ہونا برہم ہونا (عام زبان میں)۔

۳۔ اِنحَمَقَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ ـ ت السوقُ: بازار کا ٹھنڈا پڑنا۔ کساد بازاری ہونا۔

۴۔ الحَمِق: کم داڑھی والا۔ نومةُ الحُمق: ظہر کے بعد کی نیند۔ الحُماق و الحَماق و الحَمقِیق و الحُمَیقَی و الحُمَیقاء (طب): چیچک کے مشابہ ایک بیماری، آکڑا کاکڑا۔ البَقلةُ الحمقاء و بَقلةُ الحمقاء: خرفہ کا ساگ۔

○ حَمِقَ ـَ و حَمُقَ ـُ حُمقًا و حَماقةً: بیوقوف ہونا، احمق ہونا، سادہ لوح ہونا، ناراض ہونا، برہم ہو جانا حَمَّقَ و اَحمَقَ ہ: کو بیوقوف سمجھنا، کو بےزبان، بیوقوف، احمق خیال کرنا۔ تحامَقَ: بیوقوف بن [illegible] ناراض [illegible] ہو جانا۔ ـ ہ: کو بےزبان یا بیوقوف خیال کرنا۔ حُمق: حماقت، بیوقوفی، سادہ لوحی احمقانہ حرکت۔ حَماقة: بیوقوفی، حماقت، احمقانہ حرکت، سادہ لوحی، غصہ، غضب، طیش، قہر۔ حُماق: چیچک، اَحمَق مونث حَمقاء جمع حُمق و حُمُق و حَمقَی و حَماقَی: بےزبان، بیوقوف، سادہ لوح، فاتر العقل، ناراض، برہم، غضبناک۔ حَمقان: بےزبان، بےوقوف، ناراض، برہم، غضبناک۔

حمل: ۱۔ حَمَلَ ـِ حَمْلًا و حُمْلانًا الشیءَ علی ظهره: کو پیٹھ پر اٹھانا۔ ـ علی نفسه فی السیر: چلنے میں مشقت برداشت کرنا۔ ـ فلانٌ الحقدَ علی فلان: دل میں کسی کے خلاف کینہ رکھنا۔ ـ عنه: کے بارے میں بردبار ہونا۔ واحتمَلَ ہ الحِمْلَ: کی بوجھ اٹھانے میں مدد کرنا۔ حَمَّلَ تحمیلًا و حِمّالًا ہ الشیءَ: سے کوئی چیز اٹھوانا، کو کوئی چیز اٹھانے کا مکلف بنانا۔ تحمَّلَ تحمُّلًا و تِحِمّالًا ہ: کو اٹھانا۔ ـ الامرَ: کو برداشت کرنا۔ ـ الرجلُ: کمر ہمت باندھنا، صبر کر لینا، برداشت کرنا۔ ـ القومُ: کوچ کرنا، تحامَلَ فی الامر و بالامر: تکلیف دہ بات اپنے ذمہ لینا۔ ـ علی فلانٍ: پر ظلم کرنا کو ناقابل برداشت کام کی تکلیف دینا۔ ـ الشیخُ فی مستیته: چلنے میں گراں بار ہونا۔ ـ علی نفسه: مشقت کے باوجود برداشت کرنا۔ اِحتمَلَ الشیءَ: کو اٹھانا۔ ـ الصنیعة: کسی نیک سلوک پر شکریہ ادا کرنا۔ ـ الامرَ: کو صبر سے برداشت کرنا۔ ـ ما کان منه: کو معاف کرنا، سے درگزر کرنا، اِستحمَلَ: اٹھانے پر قادر ہونا۔ ـ فلانًا: کو اٹھانے کے لئے کہنا۔ الحِمل جمع اَحمال و حُمولة: بوجھ، بار۔ واحد الحُمول: ہودج یا ہودج والے اونٹ۔ الحَمَل: بہت پانی والا بادل۔ الحُملة و الحِملة: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی۔ الحَملة: ایک دفعہ کا بوجھ۔ الحاملة: انگور وغیرہ اٹھانے کی ٹوکری۔ (حی): کرگھے میں آر پار جانے والی لکڑی کا ٹکڑا جن پر دھاگوں کا مدار ہوتا ہے۔ حاملةُ الطائرات (ع) طیارہ بردار جہاز۔ aircrafl -carrier الحوامل: پاؤں۔ الحَمالة جمع حُمُل: تاوان، خون بہا، الحَمالة: خون بہا، تاوان۔ الحِمالة جمع حَمائل: تلوار لٹکانے کا تسمہ، قلی کا پیشہ، حِمالةُ البنطلون: پتلون کے گیلس۔ المَحمِل جمع مَحامِل: جس میں کوئی چیز اٹھائی جائے، ہودج۔ المِحمَل جمع مَحامِل: تلوار لٹکانے کا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تسمہ۔الحمیل: اٹھایا ہوا، سیلاب کا لایا ہوا کوڑا کرکٹ، پھینکا ہوا بچہ جسے لوگ اٹھا کر پرورش کریں۔ الحَمِیلة جمع حمائِل: تلوار لٹکانے کا تسمہ۔ الحمیلة من المجاز: تھکاوٹ، بوجھ بار۔کہا جاتا ہے: ھو حَمِیلۃٌ علینا: وہ ہم پر بار ہے۔الحَمُول: بردبار، صابر۔الحَمَّال: قلی، عام لوگ اسے العَتّال کہتے ہیں۔عند العامة: جزدان، کتابیں اور کاغذات رکھنے کا تھیلا۔ اس کی فصیح عربی القِمَطْر ہے۔ الحَمُولة: بار برداری جانور۔ الحُمْلان: ہبہ کیا ہوا بار برداری کا جانور (خصوصاً)، سامان اٹھانے کی اجرت۔المَحْمُول (مفع) "المحمول و الموضوع" عند المنطقیین: منطقیوں کی اصطلاح میں المحمول والموضوع نحویوں کی اصطلاح میں المُسْنَد و المسند الیه ہیں۔چنانچہ جملہ زیدٌ کریمٌ میں زید موضوع اور کریم محمول ہے یعنی موضوع بمعنی مسند اور محمول بمعنی مسند الیہ ہے۔ الحامُولة جمع حَوامِیل: شدید بارش کے وقت نالے میں اچھلتا ہوا پانی۔

۲۔حَمَلَ - حَمْلاً و حُمْلاناً الغضبَ: غصہ ظاہر کرنا۔ اُحْتُمِلَ: غضبناک ہونا۔لونُهُ: کا رنگ بدلنا۔

۳۔حَمَلَ - حَمْلًا و حُمْلاناً هُ علی الامر: کو پر بھڑکانا، اکسانا۔اِنْحَمَلَ علیه: پر اکسایا جانا۔

۴۔حَمَلَ - حَمْلًا و حُمْلاناً الشیءَ علی الآخر: ایک چیز کا حکم دوسری پر لگانا۔

۵۔حَمَلَ - حَمْلًا و حُمْلانات المراۃُ: عورت کا حاملہ ہونا۔الشجرۃُ: درخت کا بارآور ہونا۔الحَمْل جمع حِمَال و اَحْمال و حُمُول: پیٹ کا بچہ، درخت کا پھل۔الحَامِل و الحَامِلَة من النساء: حاملہ عورت۔الحَمِیل: (ماں کے) پیٹ کا بچہ۔

۶۔حَمَلَ - حَمْلًا و حُمْلاناً القرآن: قرآن حفظ کرنا۔العلمَ: علم کو روایت کرنا، نقل کرنا۔حَمَلَةَ القرآن: قرآن کو حفظ کرنے والے۔قرآن کی روایت کرنے والے۔

۷۔حَمَلَ - حَمْلَةً فی الحرب علیهم: پر حملہ آور ہونا۔الحَمْلَة (اع). جنگ کا حملہ۔

۸۔حَمَلَ - حَمَالَةً بِه: کا ضامن ہونا، ذمہ دار ہونا۔ الحَمالَة: ضمانت۔الحَمِیل: ضامن۔

۹۔ تَحامَلَ عنهُ: سے اعراض کرنا۔ ـ الیه: کی طرف متوجہ ہونا۔

۱۰۔ الحَمَل جمع حُمْلان و اَحْمَال (ح): بکری کا بچہ، بھیڑ یا دنبے کا بچہ۔(فلک): موسم بہار، آسمان کے برجوں میں سے ایک برج۔لِسانُ الحَمَل (ن) کیلا، کیلے کا درخت۔حَمُولُ البحر: سمندر کی نباتات۔الحَمِیل: اجنبی، منہ بولا بیٹا۔الحَوامِل: قدم اور ہاتھ کے پٹھے۔

۱۱۔ حَمْلَقَ: آنکھیں کھول کر تیز نظر سے دیکھنا۔حُمْلاق و حِمْلاق و حُمْلُوقُ العین: آنکھ کے پپوٹوں کا اندر کا حصہ۔

حَمَلَ - حَمْلاً هُ: کو اٹھانا، برداشت کرنا، کو لیجانے کے لئے اٹھانا، کو بار کر کے لیجانا، کو ہاتھ میں لینا، پکڑنا، کو ساتھ لیجانا، لینا، کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانا کی نقل وحمل کا انتظام کرنا۔۔ ہ ل/ الی: کو کے پاس لیجانا۔ - عن ہ: کے لئے، کی جگہ، کے بجائے کسی بوجھ کو اپنے ذمہ لینا۔۔ہ عن: کا بوجھ اٹھانا، ذمہ لینا۔عن ہ: کو سے چھٹکارا دلانا۔۔ ہ عن: بوجھ، شکایت وغیرہ کسی سے لینا۔۔ ہ ل: (احساس) کسی کے متعلق بڑھانا، ظاہر کرنا، کے متعلق احساس زندہ رکھنا، دل میں رکھنا۔۔من: عورت کا کسی سے حاملہ ہونا۔ -: درخت کا پھلدار ہونا۔۔۔ ہ علی: کو پر اکسانا، سے کچھ کرانا۔ - علی رأیه: کو اپنا ہم رائے بنانا، سے اپنی رائے منوالینا، کو اپنی رائے کا قائل کرلینا۔علی: پر حملہ کرنا۔حمل حملةً علی: پر حملہ آور ہونا۔ ۔ہ: (کتاب) حفظ کرنا۔ - ہ علی: کو سے بیان کرنا، کا کسی سے ذکر کرنا، کو سے مربوط کرنا، کو سے لازم وملزوم بنانا۔۔ ہ علی: کی اصل کا پتہ لگانا، کو سے منسوب کرنا، کو سے نسبت دینا، کو پر محمول کرنا کو کے باعث قرار دینا کسی لفظ کو گرامر کے طور پر دوسرے لفظ سے متفق کرنا۔ حَمَلَ فی نفسه: پریشانی محسوس کرنا، غمزدہ ہونا، پژمردہ ہونا۔ حَمَلَ علی نفسه: ضبط سے کام لینا۔حَمَلَهُ علی مَحْمَلِ: کو کے معنی میں لینا، کو کا معنی پہنانا۔حَمَلَهُ علی غیر مَحْمَلِهِ: سے غلط مطلب لینا، کو غلط معنی پہنانا، کے متعلق غلط بیانی کرنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے متعلق غلط تصور پیش کرنا۔حَمَلَهَ مَحْمَلَ الجدّ: کو سنجیدگی سے لینا، کو اس کی ظاہری صورت میں لینا۔حَمَّلَ هُ ہ: سے کچھ اٹھوانا، برداشت کروانا۔۔ ہ ہ: پر کچھ لادنا، پر بوجھ ڈالنا، کے کوئی کام سپرد کرنا، پر کام کا بوجھ ڈالنا، کو کوئی کام تفویض کرنا، پر کچھ عائد کرنا، کے گلے کچھ منڈھنا۔تَحَمَّلَ ہ: (اخراجات وغیرہ) کو برداشت کرنا، اپنے ذمہ لینا، اپنے ہاتھ میں لینا، اٹھانا۔ (ذمہ داری) اٹھانا۔ ... ظاہر کرنا کہ وہ ... وقت کے دوران جاری رہنے کی طاقت رکھتا ہے۔کو برداشت کرنا، جھیلنا، کا بوجھ اٹھانا، کو اٹھائے رکھنا، اٹھانا، بھگتنا، سہنا، بھوگنا، گوارہ کرنا، (مشکلات) میں سے گزرنا، (تکلیفیں) برداشت کرنا، (کڑیاں) جھیلنا (مصیبت) اٹھانا، (نقصان) اٹھانا (مصیبت) میں پڑنا۔۔ ہ: کو برداشت کرنے کے قابل ہونا۔-: روانہ ہونا۔تَحامَلَ علی: پر سختی کرنا، سے برا برتاؤ کرنا، بدسلوکی کرنا، کے خلاف متعصب ہونا، کے خلاف مخالف فریق کا ساتھ دینا۔ -: بڑی کوشش سے اٹھنا۔تَحَامَلَ علی نفسه: مستعد ہونا، کمر ہمت باندھنا، ضبط سے کام لینا، ڈر دور کرنا۔اِحْتَمَلَ ہ: کو اٹھانا، لیجانا، کھینچنا، گھسیٹنا، کو برداشت کرنا، سہنا جھیلنا، بھگتنا، بھوگنا، کی اجازت دینا، کو گوارہ کرنا، کو چپ چاپ مان لینا، پر رضامند ہونا، راضی ہونا، متفق ہونا، کے بارے میں صبر کا مظاہرہ کرنا، کے لئے گنجائش رکھنا، کے ممکن جائز یا قابل فہم ہونے کی طرف دلالت کرنا۔یَحْتَمِلُ و یُحْتَمَلُ: یہ) گوارا ہے، قابل برداشت ہے، قابل فہم ہے، ممکن ہے۔اغلب، بہت ممکن ہے، غالباً ہونے والا یا قابل یقین ہے۔حَمْل: اٹھانا، برداشت کرنا، ترغیب، تحریض، پر آمادہ کرنا، حوصلہ افزائی، ہمت افزائی۔حَمْل: بھیجنا، مسافر یا اسباب لیجانا، کی نقل و حمل، ذریعہ نقل وحمل سواری، بار برداری کا کرایہ، بندر برداری، ڈھلوائی، خرچہ بار برداری۔ جمع اَحْمال و حِمال: حمل، حاملہ ہونا، جنین، رحم مادر کا بچہ۔عدمُ الحمل: بانجھ پن۔حِمْل وَحَمْل جمع اَحْمال: بوجھ، بار، بار جہاز، جہاز کا سامان، جہاز پر لادنے کا مال اسباب۔حمل حی: تجارتی وزن، مسافر اور سامان کا وزن۔ حمل میّت: بھاری بوجھ جس کو اٹھانا یا ہلانا مشکل ہو۔حمل متُوازن: توازن، پاسنگ۔حَمَل جمع حُملان و اَحْمال: بھیڑ کا بچہ، برہ، عشائے ربانی کی روٹی، برج حمل، میکھ، حملة علی: پر حملہ۔حملة جمع حملات: حملہ، جارحانہ کارروائی، جارحانہ رویہ، مہم، فوجی مہم، فوجی مہم سرانجام دینے والا فوجی دستہ۔حملة تادیبیة: تعزیری یا عقوبتی مہم۔حملة صَحَافِیَّة: صحافتی مہم۔حملة اِسْتِکْشَافِیه: دیکھ بھال کا ریڈ۔حملة مَیکانِیکِیّة: موٹروں سے لیس مہم پر بھیجا جانے والے فوجی۔حملة انتخابیة: انتخابی مہم۔حَمَلی جمع حَمَلِیة: ماشکی سقہ۔حَمِیل: بن ماں باپ کا بچہ، گرا پڑا بچہ ضامن، گارنٹی دینے والا۔حمیلة علی: پر بوجھ، مکمل طور پر کسی کا دست نگر۔متوسل

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حَمُول: صبر سے برداشت کرنے والا، نرم مزاج والا
حَمَّال جمع حَمَّالون: قلی، بارکش، باربردار۔
حِمَالَة قلی یا بارکش باربردار کا کام اور پیشہ
حَمَالَة: شہتیر، سہارا، پایہ، بنیاد، نیو، کھمبا، ستون، گنیش، حَمَّالة لِلصدر: انگیا۔ حُمُولَة جمع حُمُولات: وسعت، ظرف، سمائی گنجائش، وزن کی حد، وزن کی سمائی یا گنجائش جہاز کی باربرداری کی گنجائش، جہاز میں مال کا فی ٹن کرایہ، قلی یا باربردار کی اجرت، سامان لیجانے کے لئے جہاز کا محصول۔ باربرداری کا کرایہ، بھاڑہ۔ مَحْمَل: دیکھو۔ حَمَل
اخذ شیئًا علی مَحْمَل الجدّ: کو سنجیدگی سے لینا۔ مَحمِل، مَحْمَل) جمع مَحَامِل: اونٹ پر بار پالکی، ڈولی۔ مَحْمِل: حج کے موقعہ پر مسلمان حکمرانوں کی طرف سے مکہ معظمہ کو بھیجی جانے والی سجی ہوئی ڈولی جو ان کی آزادی کی علامت ہوتی تھی۔
تَحْمِيل: بوجھ ڈالنا، بوجھ، جھنجھٹ بوجھ لادنا، جہاز وغیرہ پر سامان بار کرنا، مال لادنا، جہاز کے ذریعے بھیجنا، جہاز پر رکھنا، جہاز کی لدائی، سامان جو جہاز پر چڑھایا جائے۔ جہاز کے ذریعے بھیجا ہوا مال۔
تَحْمِيلَة جمع تَحَامِيل: (طب) بتی، شیاف۔
تَحَامُل: تعصب، جانبداری طرف داری، بدظنی، بدگمانی، عصبیت، میلان خاطر، عدم روا داری۔
اِحْتِمَال: برداشت کرنا، جھیلنا، اعتراض نہ ہونے کے باعث مفروضہ اجازت رواداری، امکان غالب، امکان، صعب الاحتمال جسے برداشت کرنا مشکل ہو، سخت بار ڈالنے والا۔ حَامِل جمع حَمَلَة: قلی، بارکش، بار بردار، (نوٹ چیک وغیرہ کا) حامل صاحب (رتبہ) تمغہ، اعزاز کا) حامل (شناختی کارڈ، ڈپلوما، ڈگری وغیرہ کا) حامل کسی چیز کو رکھنے پکڑنے رکھنے کا آلہ، ہولڈر، شکنجہ پٹی، کڑا، گھنڈی تکمہ، بٹن، زپ، پن، سہارا، پکڑ گرفت۔ ۔ علی: کے خلاف لڑنے والا۔ جمع حَوَامِل: حاملہ (عورت)۔
حامِلُ البرید: ہرکارہ پیغام رساں۔ حَمَلَةُ الاَسْهُم: پتی دار، ساجھی، شریک حصے دار (لوگ)
حَمَلَةُ الاقلام لکھنے والے، قانون دار۔ حامل کلام اللہ قرآن مجید کا حافظ۔ تیّارٌ حامِلٌ: حامل برقی رو۔
موجات حاملة: حامل لہریں (برقی) حَامِلة جمع حامِلات: لیجانے والا آلہ، بردار۔ حَامِلة خریطة: نقشہ کا کیس mapcase۔ حاملة طائرات: طیارہ بردار (جہاز) مَحْمُول: اٹھایا ہوا، برداشت کیا ہوا، قابل برداشت سامان کا وزن، جہاز کی کھیپ، بار جہاز جہاز یا ہوائی جہاز سے جانے والا سامان جہاز کی باربرداری کی گنجائش، مسند، خبر وصف، صفت (منطق میں)۔ محمول علیه: موضوع (منطق میں)۔
مشّادة محمولة: موٹروں سے لیس پیدل فوج یا پیادہ فوج۔ جنود مَحْمُولون جَوًّا: ہوابرداشتہ یا ہوائی جہاز میں جانے والی فوج۔ مُحْتَمَل ب: سے لدا ہوا، جس پہ کسی چیز کا بوجھ لادا گیا ہو سے زیر بار۔
مُحْتَمَل: قابل برداشت، اغلب، ممکن۔

○ حَمْلَق حَمْلَقَةً فی / ب: کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا گھورنا۔

○ حِملايا: ہمالیہ (پہاڑ)، کوہ ہمالیہ۔

حمو: ۱۔ الحَمُو والحَمَاو الحَمُو و الحَمْءُ تثنیه حَمَوَان و حَمَان جمع اَحْمَاء: شوہر کا باپ بیوی کا باپ۔ خاوند کے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص۔
(اس کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ حالت نصبی میں الف کے ساتھ حالت جری میں یاء کے ساتھ آتا ہے اور ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔
آپ کہتے ہیں: ھذا حموہ، رایتُ حماہ و مررت بحمیه: یہ اس کا سسر ہے، میں نے اس کے سسر کو دیکھا۔ میں اس کے سسر کے پاس سے گزرا۔
حَمَاةُ جمع حَمَوات الرجل: ساس (بیوی کی ماں)۔ ۔ المرأة: ساس (خاوند کی ماں)۔
۲۔ حَمُوُ الشمس: سورج کی گرمی۔ الحَمَاة او البَطَّة: پنڈلی کا عضلہ۔ حُمُوَّةُ الالم: درد کی شدت۔

حمی: ۱۔ حَمَی ـِ حَمْيًا و حِمْيَةً و حِمَايَةً و مَحْمِيَةً الشيءَ من الناس: لوگوں سے کوئی چیز روکنا۔ بچانا۔ حَمِيَ ـَ حَمِيَّةً و مَحْمِيَّةً من الشيء: کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا۔
حَامَی مُحَامَاةً و حِمَاءً عنه: سے بچانا، کا دفاع کرنا۔ اَحْمَی اِحْمَاءً المکانَ: جگہ کو محفوظ کرنا یا پانا۔ تَحَامَی ہُ: سے بچنا، پرہیز کرنا۔ اِحْتَمَی منه: سے بچنا۔ الحِمَی تثنیه حِمَیَان: جس کو بچایا جائے جس کا دفاع کیا جائے۔ الحِمَاء: بچائی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے۔ ھو حِماء لکَ: یہ تمہاری طرف سے فدیہ ہے۔ الحِمْيَة: محفوظ کی ہوئی چیز۔ الحَمِيَّة: غیرت، نفرت، نخوۃ، مروت۔ الحَامِي جمع حُمَاة و حَامِيَة: شیر، کتا۔ الحَمِيّ: وہ شخص جو ظلم برداشت نہ کر سکے، محفوظ کی ہوئی چیز۔ الحَامِيَة جمع حَوَامٍ: الحامی کا مونث، بہت حمایت کرنے والا (تاء مبالغہ کی ہے) حفاظت کرنے والا گروہ۔ المُحَامِي: وکیل
[illegible] وکالت۔
۲۔ حَمَی ـِ حِمْيَةً المریضَ ما یضرہ و عما یضرہ (طب): بیمار کو مضر اشیاء سے پرہیز کرانا۔ تَحَمَّی و اِحْتَمَی المریضُ: بیمار کا پرہیز کرنا، رکنا۔
الحِمْيَة: پرہیز، کہا جاتا ہے: المعدة بیت الداء و الحِمْيَةُ رأس کلّ دواء: معدہ بیماری کا گھر ہے۔ اور پرہیز دواء کی اصل ہے۔ الحَمِيّ: بیمار جس کو پرہیز کرایا گیا ہو۔
۳۔ حَمِيَ ـَ حَمْيًا و حُمِيًّا و حُمُوًّات النارُ: آگ کا بہت تیز گرم ہو جانا۔ اَحْمَی اِحْمَاءً الحدید: لوہے کو بہت گرم کرنا۔ حَمْيُ الشمس: سورج کی گرمی آفتاب کی تمازت۔ الحُمَّی جمع حُمَّيَات (طب) بخار۔
۴۔ حَمِيَ ـَ حَمْيًا و حُمِيًّا و حُمُوًّا علیه: پر سخت ناراض ہونا۔ حُمَّةُ البرد: سردی کی شدت۔
الحُمَيَّا: غصہ کی شدت، اور اس کا ابتدائی حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ لاتکلمه فی حُمَيَّا غضبه: اس کے غصہ کی شدت میں یا اس کے ابتدائی جوش میں اس سے کلام نہ کرو۔ فلانٌ شدید الحُمَيَّا: فلاں شخص شریف النفس اور خود دار ہے)۔ شراب کا جوش شراب۔ من کل شیء: ہر چیز کی تیزی اور اس کا ابتدائی جوش۔
۵۔ حَامَی مُحَامَاةً و حِمَاءً علی الضیف: عمدہ طریقے سے میزبانی کرنا۔
۶۔ اِحْمَوْمَی اِحْمِيمَاءً: رات اور بادل کی طرح سیاہ ہونا۔
۷۔ الحُمَة جمع حُمَاة و حُمًّی: زہر، ڈنک (طب): بیماری کے عوامل۔

○ حَمِيَ ـَ حَموا و حَمْيًا: گرم ہونا، گرم ہو جانا (دھات کا) دمکنا، تمتمانا۔ دفعتہ جل اٹھنا، آگ بھبھوکا ہو جانا۔ ۔ علی: پر سخت طیش میں آنا، پر غضبناک ہونا، برہم ہونا۔ حمی الوطیس: شدید لڑائی شروع ہو جانا۔ حَمَّی ہ: کو گرم کرنا تپانا۔ دھات کو تپا کر دمکانا۔ (سٹوو) جلانا، کو جلانا، روشن کرنا، آگ دکھانا، سرخ کرنا، بھڑکانا، جوش میں لانا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ ۔: نہانا، غسل کرنا، اَحْمَی ہ: کو گرم کرنا، تپانا۔ حَمْو: گرمی، حرارت۔ حمو الفیل: گرمی دانے، سرخ باد۔ حُمُو: گرمی، حرارت، حُمَة جمع حُمَات و حُمًّی: ڈنک، نیش، نیش زن جانور، ڈنک مارنے والا جانور، کانٹا، خار، سول، ابھار (پودوں کا)۔ حَمِي: گرم، گرما گرم، جوشیلا، مشتعل،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

برانگیختہ، پرجوش۔ حَمِیَّة: سرگرمی، جوش، ولولہ، گرمجوشی، لگن، دھن، پرجوش ولولہ، جوش وخروش، جذبہ، مذہبی جنون، تعصب، مذہبی جوش، کٹر پن، تشدد، زبردستی شدت، تندی، تیزی، عشق، تحمل، صبر، طیش، تاؤ، غصہ، شوق، لت، غضب، قہر، جوش یا ہیجان کی گرمی، خفگی، مزاج، طبیعت، سرشت، خصلت، ضمیر، سبھاؤ۔ الحمية القومية: جنگجویانہ وطن دوستی یا وطن پرستی۔ حَمَیَا: گرمی، حرارت، جوش، ہیجان، ہلچل، جنبش، اشتعال، اضطراب، پریشانی، شورش، سرگرمی، جوش وخروش، ولولہ، جوش، جذبہ، شعلہ، حرارت عشق، شدت، سختی، سرگرمی، تندی، غضب، قہر، غصہ، طیش، جنگ میں جوش کی شدت، شراب۔ حَمَاوَة: گرمی، حرارت۔ مُحْمًى: آگ کی بھٹی، تنور، چولہا۔ سخو حام: گرم گرم کیا ہوا، خونخوار، خونریز، پرجوش، شدید، سخت (جنگ وغیرہ) پُر جوش، آتشیں، گرم، آتش مزاج، جوش انگیز۔

○ حَمَی ۔ حَمْیًا و حِمَایَةً ہ/ ہ من: کی سے حفاظت کرنا، کو سے بچانا، کو سے بچانے کی کوشش کرنا، کو سے پناہ دینا۔ — المریض ہ: مریض کو (نقصان دہ خوراک) نہ دینا، کو پرہیزی غذا کھانے کا حکم دینا۔ حَامَی من: کا دفاع کرنا، وکیل کا کسی کا عدالت میں دفاع کرنا۔ —عن: کی تائید کرنا، کی حفاظت کرنا، کو پناہ دینا، کے نصب العین میں شامل ہونا، کے لئے جدوجہد کرنا۔ تَحَامَی ہ: سے احتراز کرنا، بچنا، پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، کنی کترانا، گریز کرنا۔ اِحْتَمَی ہ ہ: اپنے آپ کی سے حفاظت کرنا۔ — ب: کے ساتھ اپنا دفاع کرنا، بچاؤ کرنا۔ — ب/ عندمن: کے ہاں سے پناہ ڈھونڈنا، حفاظت کا طلبگار ہونا، حفاظت چاہنا۔ حِمَی: حفاظت، دفاع، جائے پناہ ملجا، مامن۔ حِمْیَة: جس کا دفاع کیا جائے، پرہیزی غذا، طبی طور پر مقرر کردہ غذا۔ حِمَایة جمع حِمَایات: حفاظت، سرپرستی، کفالت، ضمانت، اہتمام، زیرحمایت علاقہ، محروس ملک، مُحَاماة: دفاع (عدالت میں)، قانونی پیشہ وکالت، قانون کی پریکٹس۔ هَیْئَة المحاماة: بار (bar) جماعت وکلاء۔ اِحْتِمَاء: پناہ، حمایت یا حفاظت طلب کرنا، ڈھونڈنا پناہ، حمایت، حفاظت۔ حَامٍ جمع حُمَاة: حفاظت کرنے والا، دفاع کرنے والا، سرپرست۔ الدولة الحامیة: کسی محروسہ ریاست کی حفاظت کرنے والی طاقت۔ حامیة جمع حَامِیَات: سرپرست حفاظت کرنے والی، قلعہ کی فوج، قلعہ یا شہر کی حفاظتی فوج، گریزن (garison)۔

مَحْمِیّ ب: سے، کے ذریعہ حفاظت کیا گیا، محروس ملک کے ماتحت، زیرحمایت علاقہ کے ماتحت۔ زیر حمایت علاقہ کے درجہ کا۔ منطقه مَحْمِیَّة: زیر حمایت (علاقہ، ملک)۔ مَحْمِیَّة جمع مَحْمِیَات: زیرحمایت علاقہ، محروس ملک۔ مُحَامٍ جمع مُحَامُون: وکیل صفائی، مدعاعلیہ کا وکیل، بیرسٹر، اٹارنی، ایڈووکیٹ۔ مُحَامِیة: خاتون وکیل۔ مُحْتَمٍ: حفاظت ڈھونڈنے والا، متوسل، زیرنگرانی یا زیر حمایت شخص، زیرحمایت علاقہ کے تحت، زیرحمایت علاقہ کے درجہ کا۔

حنّ: ۱۔ حَنَّ ۔ حَنِینًا: خوشی یا غم سے آواز نکالنا۔ —تِ القوسُ: کمان سے آواز نکلنا۔ اَحَنَّ الصوتَ: کمان سے آواز نکالنا۔ الحَنَّان من السهام: آواز نکالنے والا تیر۔

۲۔ حَنَّ ۔ حَنِینًا الیه: کا مشتاق ہونا۔ تَحَانَّ: مشتاق ہونا۔ اِسْتَحَنَّ الشوقُ فلانًا: شوق کا کسی کو خوش کرنا۔ الیه: کا مشتاق ہونا۔ الحَانّ (فا): خوش کن۔ الحَنَّان: مشتاق۔

۳۔ حَنَّ ۔ حَنَّةً و حَنَانًا علیه: پرمہربان اور شفیق ورحیم ہونا۔ صفت: حَنُون۔ تَحَنَّنَ علیه: پررحم کرنا، مہربانی کرنا۔ الحَنَان: رحمت (کہا جاتا ہے: حَنَانَیْكَ و حَنَانَكَ یا ربّ: اے پروردگار تیری رحمت کی التجا کرتا ہوں) رزق، برکت، دل کی نرمی۔ کہا جاتا ہے: حَنَانَ اللّٰهِ: پناہ بخدا۔ (یہ مفعول مطلق ہے۔ اس کا عامل محذوف ہے۔ بمعنی: رحم فرما۔ حَنَانَیْكَ: تثنیہ کے لفظ کے ساتھ۔ اس معنی میں ہے کہ مجھ پر یکے بعد دیگرے اور رحمت در رحمت کر۔ الحَنَّان: رحمت کرنے والا، مہربان، اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک۔ التحنان: رحمت، مہربانی۔

۴۔ حَنَّ ۔ حَنًّاهُ: کو پھیرنا، باز رکھنا۔ آپ کہتے ہیں: حُنَّ عَنِّی شرّكَ: اپنے شر کو مجھ سے باز رکھو۔

۵۔ حَنَّ الشجرُ: درخت کا شگوفے نکالنا۔

۶۔ اَحَنَّ الرجلُ: غلطی کرنا۔

۷۔ الحِنّ: جنوں کا ایک گروہ۔ الحَانَّة: اونٹنی، کہا جاتا ہے: ماله حانّةٌ ولا آنّةٌ: اس کے پاس نہ اونٹنی ہے نہ بکری، طریقٌ حَنَّانٌ: واضح اور کھلا راستہ۔ الحنّان (ن): مہندی۔

○ حَنَّ ۔ حَنِینًا الی: کا آرزومند ہونا، متمنی ہونا، کا مشتاق ہونا، کی آرزو کرنا، کا آرزومند ہونا، کی التجا یا التماس کرنا، کا ملتمس ہونا، کی طلب یا خواہش کرنا۔ حَنَّةً و حَنَانًا علی: کے لئے رحم دلی یا شفقت محسوس کرنا، ہمدردی یا محبت، چاہ، لگن یا پیار محسوس کرنا، سے ہمدردی رکھنا، سے اظہار ہمدردی کرنا، کی غمگساری کرنا، سے ہمدردی کرنا، کے لئے رحم یا ترس محسوس کرنا۔ پر رحم کھانا، ترس کھانا، پر رحم کرنا۔ حَنَّنَ قَلْبَهُ: کے دل کو متاثر کرنا، کے دل پر اثر کرنا، کے دل کو محبت، شفقت سے بھر دینا۔ —: درخت کا شگوفے نکالنا، درخت کا پھلنا، بہار پر آنا۔ تَحَنَّنَ علی: کے لئے ہمدردی محسوس کرنا، رحم، محبت، شفقت، پیار محسوس کرنا، کی غمگساری کرنا، سے ہمدردی کرنا۔ —: نرم ہونا، محبت آمیز ہونا، شفقت آمیز، دلدادہ، شیدائی، محبت والا یا پیار کرنے والا ہونا۔ حَنَّة: ہمدردی، رحم، ترس، دیا، خدا ترسی، تلطف، رافت، مہربان صورت یا پہلو، بہتری، بھلائی، منفعت۔ حَنَان: ہمدردی، محبت، شفقت، نرمی، رحم، ترس، دیا، خدا ترسی، تلطف، رافت۔ حَنَانَیْكَ: مدد کرو، رحم کرو۔ حَنَانَة: رحم، ترس، تلطف، رافت، دیا، خدا ترسی۔ حَنِین: چاہ، اشتیاق، آرزو، تمنا، خواہش، شوق، یاد وطن کا عارضہ، وطن کی خواہش جس کی شدت ایک مرض کی صورت اختیار کرلے۔ حَنُون: محبت کرنے والا، نرم دل، شفقت آمیز، دلدادہ، شیدائی، محبت والا، پیار کرنے والا، رحم دل، دردمند، مہربان، غفور، رحیم کریم، نرم، شریف، موثر، دلگداز، رقت انگیز، پراثر، پردرد، جس پر ترس آئے۔ حَنَّان: شفقت آمیز، دلدادہ، شیدائی، محبت ولا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، نرم ترس کھانے والا، دیالو، رحم دل، خدا ترس، ہمدرد، شریک غم۔ تِحْنَان: محبت، پیار، انس، وابستگی، شدید الفت پرجوش محبت، جانثاری، نمک حلالی، وفاداری، خیرخواہی۔ تَحَنُّن: نرمی، ہمدردی، محبت، شفقت، چاہ، لگن پیار۔

حنا: حَنَأَ ۔ حَنَأً المکانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔ صفت: حانیء: کہا جاتا ہے۔ اخضر حانیء: بہت سرسبز۔ یہاں حانئ تاکید کے لئے آیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے۔ ابیض یقَق و احمر ناصع۔ حَنَّأَ تَحْنِیئًا و تَحْنِئَةً ہ: کو مہندی سے رنگنا۔ تَحَنَّأَ بالحنَّاء: مہندی سے رنگا جانا۔ الحِنَّاء واحد حِنَّاءة جمع حُنَّآن (ن): مہندی۔ ابو الحناء (ح): ایک سرخ سینے والا چھوٹا پرندہ۔

○ تَمْرُ الحِنَّاء: حناء کا پودہ، مہندی کا پودہ۔

حنب: ۱۔ حَنِبَ ۔ حَنَبًا الشیخُ: بوڑھے کا کبڑا ہونا۔ حَنَّبَ الشیخُ: بوڑھے شخص کا کبڑا ہونا۔ —ہُ الکِبَرُ:

Purchase This Book Online .Contact: Whatsapp
marfat.com
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کو بڑھاپے کا جھکا دینا۔ تَحَنَّبَ الشیخُ: بوڑھے کا کبڑا ہونا۔ —علیہ: پر مہربانی کرنا۔
۲۔ حَنْبَرَ حَنْبَرَۃً البردُ: ٹھنڈ یا سردی کا سخت ہونا الحَنْبَرُ: پستہ قد۔
۳۔ حَنْبَلَ: لوبیا کھانا، موزہ یا پرانی پوستین پہننا۔ تَحَنْبَلَ: سر جھکانا۔ الحَنْبُلُ (ن): لوبیا۔ الحَنْبَلُ: موزہ، پرانی پوستین، پستہ قد موٹے پیٹ والا۔ الحُنَابِل من الاوتار: مضبوط اور موٹا تانت۔ الحِنْبال: پر گوشت، بہت بولنے والا۔
○ حَنْبَلِیّ: حنبلی، مذہب ابن حنبل کا یا کے متعلق، اخلاقی معاملات میں سخت گیرانہ تنگ نظری پر مبنی، مذہبی معاملات میں سخت۔ جمع حَنَابلہ: حنبلی مذہب کے پیروکار۔
حنت: الحانُوت جمع حَوانِیت نسبت کے لئے۔ حانی و حَانَوِیّ (مذکر و مونث): شراب بیچنے والے کی دکان، دکان (عموماً)۔
حنث: ا۔ حَنِثَ ـَ حِنْثًا: باطل کی طرف مائل ہونا۔ —فی یمینہ: قسم توڑنا۔ اَحْنَثَ ہُ: کی قسم تڑوانا، سے قسم تڑوانا۔ تَحَنَّثَ مِن کذا: گناہ سے بچنا، توبہ کرنا۔ الحِنْثُ جمع اَحْنَاث (مص): گناہ، بلوغت (کہا جاتا ہے: بلغ الغلامُ الحِنْثَ: لڑکا بالغ ہوگیا) گناہ کے مواخذہ کا وقت۔ المَحَانِث مفرد مَحْنِث: گناہ کے مواقع۔
۲۔ تَحَنَّث: گناہ سے نفرت کرنا، گناہ چھوڑ دینا، عبادت کرنا، بتوں سے الگ ہونا اور ان کی عبادت ترک کر دینا۔
○ تَحَنَّث: پارسا ہونا، زاہد ہونا، مذہبی تزکیہ ڈھونڈنا، گناہ سے بچنا، گناہ سے نفرت کرنا، گناہ کو برا خیال کرنا۔ حِنْث جمع اَحْنَاث: دروغ حلفی، جھوٹا حلف، گناہ۔
حنج: ا۔ حَنَجَ ـِ حَنْجاً ہُ: کو جھکانا —الحبلَ: رسی مضبوط بٹنا۔ اَحْنَجَ الشیءُ: جھکنا۔ —الشیءَ: کو جھکانا۔ الخبرَ: خبر کو چھپانا۔ —الکلامَ: کلام کا رخ پھیر کر اسے ناقابل فہم بنانا۔ الرجلُ: چلتے ہوئے جلدی سے پیچھے دیکھنا۔ اِحْتَنَجَ الشیءُ: جھکنا۔
۲۔ حَنَجَ ـِ حَنَجات حاجۃٌ: حاجت و ضرورت پیش آنا۔
۳۔ حَنْجَرَت العینُ: آنکھ کا اندر کو دھنسنا۔ —ہ: کو ذبح کرنا۔ الحَنْجَرَۃ جمع حَنَاجِر (ع ا): نرخرہ، سانس کی نالی۔ الحُنْجُور جمع حَنَاجِیر: نرخرہ، سانس کی نالی، شیشی، ٹوکری۔ الحَنْجُور جمع حَنَاجِیر: دوات، مرہم کی شیشی۔ (عام زبان میں)۔
○ حَنْجَرۃ جمع حَنَاجِر و حُنْجُور جمع حناجیر: ٹینٹوا، نرخرہ، حلقوم، آواز نکالنے کا عضو، گلا۔
○ حَنْجَلَ: گھوڑے کا جست کرنا، اچھلنا کودنا، کلول کرنا، کدکڑی مارنا، کلیل کرنا، اچھل کود کرنا، کھیلنا، کودنا۔ تَحَنْجَلَ: رقص کرنا، کلیل کرنا کدکڑی مارنا، کھیلنا، کودنا، ناچنا، اچھلتے پھرنا خراماں خراماں پھرنا، کودنا پھاندنا۔
حنح: حَنحَنَ البندقُ او الجوزُ و نحو ھما: اخروٹ وغیرہ کی گری کا خراب ہونا۔ (اس کے لئے فصیح لفظ: حَمِثَ ہے)۔ —علیہ: پر ترس کھانا سے ہمدردی کرنا۔ کے بارے میں تشویش کرنا، کے لئے خوف کھانا۔
حند: ا۔ حَنْدَسَ و تَحَنْدَسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الحِنْدِس جمع حَنَادِس: سخت تاریک رات، تاریکی۔ الحَنَادِس: ہر ماہ کی تین آخری تاریک راتیں۔
۲۔ الحِنْدَقُوق و الحَنْدَقُوق و الحَنْدَقُوقی و الحِنْدَقوقَی: ایک پاگل سا دراز قامت آدمی (ن): ایک قسم کی سبزی یا تین پتی بوٹی جسے الدُرَق بھی کہا جاتا ہے۔ کھیتوں اور چراگاہوں میں اگتی ہے۔
○ حَنْدَقُوق: زرد میٹھی ترفل۔ تپیا۔
حنذ: ا۔ حَنَذَ ـِ حَنْذًا و تَحْناذًا اللحمَ: گوشت بھوننا، پکانا۔ بھنا ہوا یا پکایا ہوا گوشت حنیذ کہلاتا ہے۔ —الفرسَ: گھوڑے کو پسینہ لانے کے لئے دوڑانا۔ صفت مفعولی: مَحْنُود و حَنِیذ، —تہُ الشمسُ: سورج کا کسی کو جلانا، جھلس دینا۔ اَحْنَذَ اللحمَ: گوشت کو پکانا۔ اِسْتَحْنَذَ: دھوپ میں لیٹ کر اور اپنے اوپر کپڑے لے کر پسینہ لانے کی کوشش کرنا۔ الحُنْذَۃ: سخت حرارت، حَنَاذِ (مبنی بر کسر) سورج۔ الحَنِیذ: گرم پانی، سر دھونے کی خوشبودار چیز۔ الحِنْذِیذ: بہت پسینہ والا گھوڑا یا انسان۔
۲۔ اَحْنَذَ: شراب میں زیادہ یا تھوڑا پانی ملانا۔
حنر: حَنَرَ ـِ حَنْرًا الحَنِیرَۃَ: محراب بنانا دیوار میں خمدار جگہ بنانا۔ الحَنِیرَۃ: محراب، طاق میں خمدار جگہ، کمان، ہر قمدار اور ٹیڑھی چیز۔ دھنیے کی کمان۔ ج حَنِیر و حَنَائِر (ب)۔
حنس: حَنِسَ ـَ حَنَسًا: معرکہ کے درمیان بہادری سے ڈٹا رہنا۔ الحُنُس: خدا پرست پرہیزگار لوگ۔
حنش: حَنَشَ ـُ حَنْشًا ہُ: کو ہٹانا، دوسری جگہ ہٹا دینا۔ الصیدَ: شکار کرنا۔ —ت الحیّۃُ فلانًا: سانپ کا کسی کو ڈسنا۔ اَحْنَشَ ہُ: کا شکار کرنا۔ —ہُ عن الامر: سے کام کو جلدی کرانا۔ الحَنَش جمع اَحْنَاش و حُنْشان (ح): ایک قسم کا سانپ۔ ہر وہ جانور جس کا سر سانپ کے مشابہ ہو، مثلاً گرگٹ، چھپکلی وغیرہ۔
حنط: ا۔ حَنَطَ ـُ حُنُوطًا و اَحْنَطَ الزرعُ: کھیتی کی کٹائی کا وقت آنا۔ الحانط (فا): بہت گیہوں والا، گیہوں والا۔ الحِنْطَۃ جمع حِنَط (ن): گیہوں۔ حِنْطَۃٌ سوداء (ن): سیاہ گیہوں۔ الحِنْطِیّ: بہت گیہوں کھانے والا، پھولا ہوا۔ حِنطِیُّ اللون: گندم گوں۔ الحَنَّاطِی: گندم فروش۔
۲۔ حَنَطَ ـُ حُنُوطًا و اَحْنَطَ الشجرُ: درخت کے پھل پکنا۔ الحانِط: پکے ہوئے پھل والا درخت یا پودا یا جڑی بوٹی۔
۳۔ حَنَطَ ـِ حَنْطًا الجلدُ: جلد کا سرخ ہونا صفت: حانِط۔ الحانِط: گہرا سرخ۔ کہا جاتا ہے۔ اَحْمَر حانِط: گہرا سرخ۔
۴۔ حَنَّطَ و اَحْنَطَ المیتَ: مردہ کو خوشبو لگا کر خراب ہونے سے بچانا۔ تَحَنَّط: مردہ پر خوشبو ملنا۔ الحُنُوط و الحِناط: مردہ کی لاش میں بھری جانے والی خوشبو تاکہ عرصہ تک گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ الحِناطۃ: مردوں پر خوشبو لگانے کا پیشہ۔ الحَنَّاط: مردوں کو حنوط کرنے والا۔
۵۔ اِسْتَحْنَطَ: مرنے پر دلیری دکھانا۔
۶۔ الاَحْنَط: بڑی اور گھنی داڑھی والا۔
۷۔ الحِنطِیّ: وہ شخص جس کی خوراک گیہوں ہو، پستہ قد۔ الحِنْطَاْوُ و الحِنطَاْوَۃ: پستہ قد بڑے پیٹ والا۔ حَنَّطَ ہ: مردہ جسم میں مسالے اور خوشبو بھرنا تاکہ لاش عرصہ تک محفوظ رہے، لاش کو مسالے لگا کر حفاظت سے رکھنا، کو مسالہ اور خوشبو لگانا۔ —ہ: لاش میں مسالہ بھرنا۔ حِناطَۃ: مردہ جسم میں مسالے اور خوشبو بھرنا۔ تَحَنَّط: ممی بنانا یا ہونا، مسالہ لگا کر لاش کو محفوظ کرنا۔ مُحَنَّط: ممی بنایا ہوا، مومیایا ہوا، مسالہ لگا کر محفوظ کیا ہوا۔ حِنْطَۃ: گیہوں۔ عربۃ الحَنْطُور: وکٹوریہ، ہلکی بگھی۔
حنظ: ا۔ الحُنْظُبَاء و الحُنْظُبَاء (ح): زنبڈی، نر گبریلا۔ الحِنظَاب: بدخو پستہ قد۔ الحنظُوب: موٹی اور بھدی عورت۔
۲۔ حَنْظَلَت الشجرۃُ: درخت کے پھل کا کڑوا ہو جانا۔ الحَنْظَل (ن): اندرائن۔ اَمَرُّ من الحنظل:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اندرائن سے زیادہ کڑوا۔

حنف ۱۔حَنِفَ ۔ حَنَفًا: جھکنا۔ ۔ رِجْلُهٗ: پاؤں ٹیڑھا کرنا۔حَنِفَ ۔ حَنَفًا و حَنُفَ ۔ حَنَافَةً: ٹیڑھے پاؤں والا ہونا صفت: اَحْنَف مؤنث حَنْفَاء۔ حَنَّفَ ہٗ: کو ٹیڑھے پاؤں والا کر دینا۔تَحَنَّفَ: حنفی ہونا یا حنفیت کا کام کرنا۔ (کہا جاتا ہے: شافعی۔ تحنف شافعی حنفی ہوگیا) ۔ الیہ: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔الحَنِيف جمع حُنَفَاء: اسلام سے متمسک یا اسلام کی طرف صحیح میلان رکھنے والا، جو دین ابراہیمی پر قائم ہو، موحد ہو، سیدھا۔الحُنَفَاء: کمان۔الحَنَفِيّ جمع اَحْنَاف و حَنَفِيَّة: مذہب امام ابوحنیفہ کا پیرو۔حنفی المذہب امام۔الحَنِيفِيَّة فی الاسلام او الدین: اسلام یا دین کی طرف میلان اور اس سے تمسک۔

۲۔الحَنْفَاء: استرہ، گرگٹ، کچھوا۔الحَنَفِيَّة (حی): حوض کی ٹونٹی۔

۳۔الحُنْفُش و الحِنْفِيش جمع حَنَافِش و حَنَافِيش (ح): ایک قسم کا زہریلا سانپ موٹے سر باریک گردن والا جو غصہ میں آتا ہے تو گردن کی رگیں پھلا لیتا ہے۔

حَنَفَ ۔ حَنَفًا: پہلو کی جانب مڑنا یا جھکنا۔حَنِيف جمع حُنَفَاء: سچا مومن صحیح العقیدہ، غلط عقائد سے متنفر اور سچے دین کا ماننے والا۔سچا (دین) الدین الحنیف: سچا اسلامی دین۔ الحنیفة السَّمْحَاء: سچا اسلامی دین۔حَنِيفِيّ: (مسیحیت میں) کافر، ملحد، غیر اہل کتاب، بت پرست؟ حنفی: دیکھو حنفیة) جمع حنیفیون۔حَنِيفِيَّة: (مسیحیت میں) کفر، الحاد، (غیر اہل کتاب کی دنیا)، حنفی مذہب جس کے بانی امام ابوحنیفہ ہیں) جمع حَنَفِيَّات: (شراب کے پیپے کی) ٹونٹی (کسی بھی ظرف کی) ٹونٹی۔بازار میں لگا ہوا پانی کا نل۔الحَنِيفِيَّة: سچا (اسلامی) دین، اَحْنَف: بگڑے ہوئے پاؤں والا، ٹیڑھے پاؤں والا۔

حنق ۱۔حَنِقَ ۔ حَنَقًا منه و علیه: پر سخت ناراض ہونا صفت: حَنِق و حَنِيق جمع حُنُق۔ اَحْنَقَ ہٗ: کو غضبناک کرنا۔۔الرجلُ: سخت کینہ رکھنا۔الحَنَق و الحَنِق: سخت غصہ۔

۲۔ اَحْنَقَ الدابَّةَ: جانور کو دبلا کرنا۔اِحْتَنَقَ: موٹا ہونا۔الحَنِق و المَحَانِيق من الابل: موٹے اونٹ۔

ت حَنِقَ ۔ حَنَقًا: غصہ ہونا، پاگل ہونا، ازخود رفتہ ہونا، برہم ہونا، غضبناک ہونا۔۔من / علی: سے پریشان ہونا، برانگیختہ ہونا، برہم ہونا بھڑکنا، آگ بگولہ ہونا، جھلایا ہوا ہونا، بے حد خفا ہونا، آزردہ ہونا، کشیدہ خاطر ہونا، رنجیدہ ہونا، شاکی ہونا۔اَحْنَقَ ہٗ: کو غضب آلود کرنا، غصہ دلانا، بھڑکانا، اشتعال دلانا، مشتعل کرنا، طیش میں لانا، غضبناک کرنا، کا ناک میں دم کرنا، کا قافیہ تنگ کرنا، کو برانگیختہ کرنا، برہم کرنا، آگ بگولہ کرنا، خفا کرنا، پریشان کرنا۔حَنَق: غضب، قہر، غصہ، طیش، تاؤ، برہمی، خفگی، ناراضگی، غیظ، خشم، ناراضی، برانگیختگی، اشتعال بیر، آزردگی، بغض، عناد، کینہ، عداوت۔حَنِق: ازخود رفتہ، تندوتیز، غضبناک، آشفتہ، برہم، پاگل، ناراض، آزردہ، کشیدہ خاطر، رنجیدہ، تلخ، تلخ کیا ہوا، ناک میں دم کیا ہوا، قافیہ تنگ کیا ہوا، پریشان، برانگیختہ، برہم، بھڑکا ہوا، آگ بگولہ، جھلایا ہوا، بے حد خفا۔حَانِق: ازخود رفتہ، تندوتیز، غضبناک، آشفتہ، برہم، پاگل، ناراض، تلخ، آزردہ، کشیدہ خاطر، رنجیدہ، تلخ کیا ہوا، پریشان، برانگیختہ، برہم، بھڑکا ہوا، آگ بگولہ، جھلایا ہوا، بے حد خفا۔حانق علی الحیاة: زندگی سے اکتایا ہوا، بیزار پست ہمت، مایوس، دل شکستہ، شکستہ خاطر، رنجیدہ، آزردہ، اداس حانق علی النساء: زن بیزار، عورت سے نفرت کرنے والا۔مُحْنَق: غضب آلود کیا ہوا، بھڑکایا ہوا، اشتعال دلایا ہوا، مشتعل کیا ہوا، طیش میں لایا ہوا غضبناک کیا ہوا، غصہ دلایا ہوا۔تلخ کیا ہوا، تلخ، ناراض، برانگیختہ کیا ہوا، برہم کیا ہوا، آگ بگولہ کیا ہوا، آزردہ، کشیدہ خاطر، رنجیدہ۔

حنك ۱۔حَنَكَ ۔ حَنْكًا الشيءَ: کو سمجھنا کو مضبوط کرنا۔ ۔حَنْكًا و حَنَكًا و اَحْنَكَ و اِحْتَنَكَ الدهرُ الرجلَ: زمانہ کے تجربات و امور کا انسان کو دانا و حکیم بنا دینا صفت مفعولی: حَنِيك جمع حُنُك۔ حَنَّكَ الصبيَّ: بچہ کو مہذب بنانا۔۔الدهرُ الرجلَ: زمانہ کے تجربات و امور کا انسان کو دانا و حکیم بنا دینا۔الحُنْك و الحِنْك، الحُنكة: تجربہ۔الحُنْك مونث: حُنْكة: عقلمند آدمی جس کو زمانہ نے تجربکار بنا دیا ہو۔المُحَنَّك: وہ تجربہ کار جس کو واقعات زمانہ نے باخبر اور دانا بنا دیا ہو۔

۲۔حَنَكَ ۔ حَنْكًا: چبا کر نرم کرنا۔و اِحْتَنَكَ الفرسَ: گھوڑے کے منہ میں رسی دینا۔حَنَّكَ: چبا کر نرم کرنا۔ ۔ت القابلةُ الطفلَ: دائی کا دودھ پینے سے پہلے بچہ کا گلا روغن بادام اور انار کے پانی وغیرہ سے ملنا۔اسی سے ہے: تحنيك الميت: پگڑی کو میت کی ٹھوڑی کے نیچے سے لا کر باندھنا۔تَحَنَّكَ فی الکلام: گفتگو میں بڑی باریک کا خیال رکھا ہوا ہونا، سخت محتاط ہونا، بہت زیادہ غور و خوض سے کام لینے والا ہونا۔الحَنَك جمع اَحْنَاك (ع ا): تالو، نیچے کا جبڑا، ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ۔الحِنَاك جمع حُنُك و المِحْنَك: لگام کی رسی۔

۳۔اِحْتَنَكَ ہٗ: پر غالب ہونا۔۔الجرادُ الارضَ: ٹڈی کا زمین کے سبزہ کو کھا کر صاف کر جانا۔اِسْتَحْنَكَ: کم خوراک ہونے کے بعد بہت کھانے لگنا۔

۴۔الحَنَك واحد حَنَكة: چھوٹے ٹیلے جن کے پتھر نرم و سفید ہوں۔لوگوں کی وہ جماعت جو چراگاہ کی تلاش میں کسی جگہ جائے۔حَنَك جمع اَحْنَاك الغراب: کوے کی چونچ یا اس کی سیاہی۔کہا جاتا ہے: اَسْوَد من حَنَكِ الغراب: کوے کی چونچ سے زیادہ کالا۔الحَانِك: سخت سیاہ۔کہا جاتا ہے: اسود حانك: سخت سیاہ۔

۵۔الحَنْكَلِيس (ح): ایک قسم کی مچھلی جس کے لئے فصیح عربی الجِرِّيّ ہے۔

ت حَنَكَ ۔ و حَنَّكَ و اَحْنَكَ ہٗ: (قسمت، زمانہ یا عمر کا) کسی کو آزمائشوں سے تجربہ کار یا دنیا کے دھندوں کا ماہر بنا دینا۔۔ تفصیل سے بیان کرنا، حَنَك جمع اَحْنَاك: تالو حَنَكِيّ: تالو کا۔حُنْك و حِنْك و حُنْكَة: دنیاوی تجربہ تجربہ کے ذریعہ حاصل شدہ دنیاوی دانشمندی، دنیوی تجربہ مُحَنَّك: تجربہ کار، دنیا کے دھندوں کا ماہر، دنیاوی معاملات کا تجربہ رکھنے والا۔مُحَنَّك مُبَنَّك: سمجھدار، ہوشمند، زیرک، ہوشیار طباع، حاضر جواب، فیشن ایبل۔

حنا ۱۔حَنَا ۔ حَنْوًا الشيءَ: کو موڑنا، پیچ دینا۔۔ الحِنِيَّةَ: کمان بنانا۔حَنَى ۔ حِنَايَةً الشيءَ: کو موڑنا، پیچ دینا۔حَنَّى تَحْنِيَةً الشيءَ: کو موڑنا۔تَحَنَّى: ٹیڑھا ہونا، مڑنا۔الحِنْو والحَنْو جمع اَحْنَاء و حُنِيّ و حِنِيّ: ہر وہ حصہ بدن جس میں کجی ہو جیسے پسلی، ہر ٹیڑھی لکڑی۔الحَنِيَّة جمع حَنَايَا و حَنِيّ: کمان (ب) محراب۔حَنِيَّةُ الكَنِيسَة (ب): کلیسہ کے ہیکل کے اوپر شروع میں محراب۔المَحْنِيَة و المَحْنُوَة و المَحْنَاة جمع مَحَانٍ من الوادی: وادی کا موڑ۔الحانية جمع حَوَانٍ و الحانات و الحانوت: دکان، الحانُوِيّ: دوکاندار، الحَانِي: دکاندار۔الحَوَانِي (ع ا): ہر دو جانب سب سے لمبی پسلیاں۔المُنْحَنَى: وادی کا موڑ۔الحانِيَة: الحانی کا مونث۔شراب۔شراب بیچنے والے۔الاَحْنَى مونث حَنْوَاء: کبڑا۔

۲۔ حَنَا ۔ حُنُوًّا و اَحْنَى علیه: کی طرف مڑنا، جھکنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تَحَنَّى علیه: پر مہربانی کرنا شفقت کرنا۔ الأَحْنَى: ٹیڑھا تر، شفیق تر: کہا جاتا ہے۔ فلان احنی الناس ضلُوعًا علیك: فلاں شخص تم پر سب لوگوں سے زیادہ مہربان ہے۔ هو احنی علیك من قلب ام: وہ تجھ پر ماں کے دل سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔

۳۔ الحِنو من الشیء: چیز کا پہلو۔ من السرج: زین کا اگلا اور پچھلا حصہ۔ اَحْنَاءُ الأُمُورِ: پیچیدہ باتیں۔

○ حَنَا ـُ و حَنَى ـِ حَنْوًا و حَنْيًا: جھکنا، مڑنا، پھرنا، خمیدہ ہونا، بٹنا، بل کھاتے ہوئے جانا، میں پیچ و خم ہونا۔ علی/الی کی طرف جھکنا، مائل ہونا، سے رغبت ہونا۔— علی پر افسوس وغیرہ محسوس کرنا، سے ہمدردی رکھنا، سے اظہار ہمدردی کرنا، کی غمگساری کرنا، سے ہمدردی کرنا، پر رحم کھانا، ترس کھانا، پر رحم آنا۔— ہ: کو جھکانا، موڑنا، خم کرنا، ٹیڑھا کرنا، لچکانا، اَحْنَى ہ: کو جھکانا، ٹیڑھا کرنا۔— راسه: اپنا سر جھکانا۔— علی: سے ہمدردی کرنا کے درد میں شریک ہونا، سے اظہار ہمدردی کرنا، پر رحم کھانا، ترس کھانا، پر رحم آنا۔ انْحَنَى: جھکنا مڑنا، پھرنا، بل کھانا، سڑک وغیرہ کا چکر دار ہونا، پیچ دار ہونا، چکر کھاتے ہوئے جانا۔— عن: سے مڑنا، انحراف کرنا تجاوز کرنا، گریز کرنا، پھرنا، ہٹ جانا۔— ل: کو آداب کہنا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔— علی / فوق: پر جھکنا۔— الی: کی طرف جھکنا۔— علی: شوق یا سرگرمی سے اپنے آپ کو کسی کے لئے وقف کرنا، نذر کرنا، مخصوص کرنا۔— علی: کو دل میں رکھنا، پر قابو پانا۔ ان ضلُوعِي لا تنحنی علی ضِغنٍ: میرے دل میں کوئی تلخی (بغض، کینہ) نہیں، میں کوئی آزردگی محسوس نہیں کرتا۔ حَنْو: جھکنا، جھکانا، موڑ، جھکاؤ، انحراف، خمیدگی، خم، جھونک، لچک، مڑا ہوا ہونا، خمیدہ ہونا، ٹیڑھا کرنا، لچکانا، خم کرنا، بل دینا، بٹنا، بل کھانا، بل کھاتے ہوئے آگے بڑھنے کی حرکت، چکر، گردش، موڑ، پھیر۔ حِنو جمع اَحْنَاء: موڑ، خم، پیچ، کجی، چکر، نیازمندی، سلام بندگی تسلیمات، پھیر، انحراف، گردش پیچ پلٹا، رسی، بل، خط منحنی، کجی، پیچ، پیچ و خم، نشیب و فراز، ہیئت، مسافت نقش و نگار، صورت، شکل، احناء: پسلیاں۔ بین اَحْنَاءِ ها: اس (خاتون) کے سینہ میں۔ حُنُوّ: ہمدردی، رحم، ترس، نرمی، محبت، شفقت، چاہ، لگن، پیار۔ حَنْي: جھکاؤ، موڑ، انحراف، خم کرنا، موڑنا، جھکانا، خمیدگی، خم، جھونک، لچک، جھکنا، جھکا ہوا ہونا، گولائی، بل دینا، حَنِيَّة: موڑنا، پھیرنا، اعوجاج، خط منحنی، چکر، موڑ، پلٹا۔ حَنِيَّة جمع حَنَايَا: محراب، کسی چیز خصوصا سڑک کی سطح پر چھوٹا سا اوپر کی طرف خماؤ۔ خمیدگی، گولائی۔ فی حنایا صدره: کے سینہ میں۔ فی حنایا نفسه: کے دل میں، اس کے دل کی گہرائی میں۔ حِنَايَة: خمیدگی، مڑنا، جھکنا، جھکانا، بٹنا، بل دینا، مروڑنا، موڑنا، پھیرنا۔ مَحْنًى جمع مَحَانٍ: خمیدگی، اعوجاج، خم، لچک موڑنا، پھیرنا، جھونک۔ انحناءة: نیازمندی، سلام، تسلیمات، جھک کر سلام کرنا۔ الحوانی: سب سے زیادہ لمبی پسلیاں، (مجازا) سینہ۔ بملءِ حوانیهم: (وہ اپنی پوری قوت سے (چلائے) مَحْنِيّ: جھکا ہوا، خمیدہ ٹیڑھا، پیچ دار موڑ والا۔ مُنْحَنٍ: جھکا ہوا، مڑا ہوا، ٹیڑھا، بل دیا ہوا، مروڑا ہوا، جھکا ہوا، سر تسلیم خم کیا ہوا۔ مُنْحَنًى جمع مُنْحَنَيَات: جھکاؤ۔ جھونک، خمیدگی، لچک، گولائی، موڑ، خماؤ، خم، کجروی، کجی، انحراف، چکر، گردش، موڑ، پلٹا، انقلاب، پیچ، زاویہ، رخنہ، شگاف، ڈھلان، نشیب، سڑک کی خمیدگی، حانوت جمع حوانیت: سٹور، دکان، شراب کی دکان۔ حَانُوتِي جمع حانوتیة: لاش کو غسل دینے والا، مردہ کو نہلانے والا، تجہیز وتکفین کرنے والا الاغسال، کفن دوز، تابوت بردار، گورکن۔

○ حَوَّاء: حواء، اماں حواء۔

حاب: ا۔ حَابَ ـُ حَوْبًا و حُوبًا و حَوْبَةً و حَابًا و حِيَابَةً بكذا: کا گناہگار ہونا۔ اَحْوَبَ إِحْوَابًا: گناہ کی طرف مائل ہونا۔ تَحَوَّبَ: گناہ سے بچنا۔ الحَوْب و الحُوب و الحَوِيبَة و الحُوبَة والحَاب و الحابة: گناہ۔ الأَحْوَب مونث: حَوْبَاء: گناہگار۔

۲۔ تَحَوَّبَ منه: سے دردمند و غمزدہ ہونا۔ فی دُعائِه: دعا میں تضرع وزاری کرنا۔ اسْتَحْوَبَ: دردمند ہونا۔ الحَوْب و الحُوب: غم، وحشت۔ الحَوْبَة: ماں باپ، بہن بیٹی۔— و الحِيبَة: ماں کی طرف سے رشتہ داری۔ (کہا جاتا ہے: لی فیهم حَوْبَةٌ: میرا ان سے ننھیال کا رشتہ ہے) حاجت، حالت، کہا جاتا ہے: بات بحَوْبَة سوء: اس نے بری حالت میں رات گزاری۔ الحُوبَة: ماں کی طرف سے رشتہ داری، کمزور آدمی، کہا جاتا ہے۔ انّ لی حُوبَةً اعولها: میرے بال بچے ہیں جن کی میں کفالت کرتا ہوں۔ انما فلانٌ حُوبَة: فلاں شخص کے پاس نہ تو بھلائی ہے نہ برائی۔ الحُوبَاء جمع حُوبَاوَات:

○ تَحَوَّب: گناہ سے اجتناب کرنا، پارسا زندگی گزارنا۔— من: سے باز رہنا، الگ رہنا، پرہیز کرنا۔ حَوْبَة: گناہ، جرم، تقصیر، بدعنوانی، ظلم، خطا، قصور، فعل بد، برا کام، مجرمانہ فعل، زیادتی، زبردستی، دست اندازی، حقوق کی پامالی، ستم اندھیر۔ حَوْبَاء: نفس، روح۔

حات: حَاتَ ـُ حَوْتًا و حَوَتَانًا الطیرُ او الوحشُ علی الشیء: پرندہ یا وحشی جانور کا کسی چیز پر منڈلانا یا اس کے گرد چکر کاٹنا۔ حَاوَتَ ہ: کو دھوکا دینا۔— عن كذا: کی سے مدافعت کرنا۔ الحُوت جمع حِيتَان و احوات و حِوَتَة (ح): مچھلی (ح): بڑی مچھلی (فک): آسمان کے ایک برج کا نام۔

○ حُوت جمع حِيتَان و اَحْوَات: مچھلی، وھیل Whale (سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی)، مچھلیاں، برج حوت میں بارہواں نشان۔ حوت سلیمان: سامن مچھلی۔

حاث: ا۔ اَحَاثَ إِحَاثَةً الارض: زمین کھود کر مٹی بکھیرنا، الٹ پلٹ کرنا۔ اِسْتَحَاثَ اِسْتِحَاثَةً الارض: زمین کھود کر اس میں پائی جانے والی چیزیں نکالنا۔ الشیءَ: کو نکالنا۔ عِلمُ المُسْتَحاثَات: زمین پر زندگی کی تاریخ کے رہنما کے طور پر آثار متحجرہ کا مطالعہ۔

۲۔ اَحَاثَ اِحَاثَةً الشیءَ: کو جدا جدا کرنا، متفرق کرنا۔ کہا جاتا ہے: ترکهم حَوثَ بَوثَ او حَیثَ بَیثَ او حاثِ باثِ او حَوثًا بَوثًا: میں نے ان کو متفرق چھوڑا۔

۳۔ الحَوْثاء: موٹی عورت، فربہ اندام عورت (ع ا): جگر اور جگر کے ارد گرد کے حصے۔

حاج: ا۔ حَاجَ ـُ حَوْجًا: محتاج ہونا۔ اَحْوَجَ الیه: کا محتاج ہونا۔— ہ: کو محتاج کرنا، یا بنانا۔ تَحَوَّجَ: اپنی حاجت طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَحَوَّجَ: اپنی حاجت طلب کرنا، کہا جاتا ہے۔ خَرَجَ فلانٌ يَتَحَوَّجُ: فلاں شخص نے نکل کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں، اِحْتَاجَ الیه: کا محتاج ہونا۔ الحاجة جمع حَاجٌ و حِوَجٌ و حَاجَات و حَوَائِج (آخری جمع کالفظ حاجہ کے اندازہ پر ہے): ضرورت۔ (کہا جاتا ہے: حاجة حائجة: اشد ضرورت) سوال۔ الحَوْجَاء: حاجت، ضرورت، اس سے ہے ما کان فی نفسه حوجاء ولا لوجاء (اور تصغیر کے ساتھ) حُوَيْجاء ولا لُوَيْجاء: اس کے دل میں کوئی حاجت نہیں تھی۔ نیز کہا جاتا ہے: کلّمته فما ردّ حَوْجَاء ولا لَوْجَاء: میں نے اس سے گفتگو کی تو اس نے جواب میں اچھا یا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

براکوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا۔ المَحَاوِیج محتاج لوگ۔

۲۔ حَوَّجَ بِهِ عن الشيء: کوکسی چیز سے ہٹانا، باز رکھنا۔

۳۔ الحاج (ن): ایک قسم کا کانٹا، (ن): ایک قسم کا ترش پودہ۔ الحَوْج: سلامتی، کہا جاتا ہے: حَوْجًا لَكَ: تمہارے لئے سلامتی ہو۔ (یہ ایک محذوف فعل کی وجہ سے منصوب ہے اور اصل میں اس معنی میں ہے: أَسْأَلُ حَوْجًا لَكَ۔

○ اَحْوَجَ الی کو کی ضرورت ہونا، کا ضرورت مند ہونا، کی ضرورت رکھنا، کو کوئی چیز درکار ہونا۔ — ہ الی: کو کا ضرورت مند بنانا، کے لئے کوئی چیز ضروری بنانا، سے کا مطالبہ کرنا، کو پر مجبور کرنا، —ہ: کو مفلس کر دینا، کی طاقت یا خوبیاں ختم کر دینا، ما اَحْوَجَهُ الی: اسے اس کی کتنی ضرورت ہے، اسے کی کتنی فوری ضرورت ہے۔ اِحْتَاجَ الی: کو کی ضرورت ہونا، کا ضرورت مند ہونا، کی ضرورت رکھنا، کوئی چیز درکار ہونا (صلہ بھی یہی معنی دیتا ہے)۔

حَوْج: ضرورت، حاجت، کمی، قلت، احتیاج جس چیز کی کمی ہو، گھاٹا، بے نوائی، افلاس۔ حَاجَة جمع حَاجَات الـــی /ب: کی ضرورت، احتیاج، —: ضرورت، مجبوری، ضرورتِ زندگی، احتیاج، حاجتمندی، بنیادی شرط، شرط اولین، قدرتی، جسمانی ضرورت، اہم ضرورت، ضرورت مند ہونا، غربت، مفلسی، محتاجی، بے نوائی، افلاس، ضرورت یا خواہش کی چیز، خواہش، آرزو، درخواست ضروری چیز، مطلوبہ شے، معاملہ، واسطہ کاروبار، کام، چیز، جمع حَوَائِج: ضروریات ضروریات زندگی، روزمرہ کی چیزیں، اثرات، سامان، جائداد، سب کچھ، مال، چیز، شے، کپڑے، لباس۔ کَانَ فی حاجةٍ الی (ل): کا ضرورت مند ہونا، کوئی چیز درکار ہونا، کی ضرورت ہونا، کی طلب ہونا، کا تقاضا ہونا، کی حاجت ہونا، کی احتیاج رکھنا، لاحاجة الی (لِ): ضروری نہیں، مطلوب نہیں، کی کوئی ضرورت نہیں۔ لاحاجة لی به: مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عِنْدَ الحاجةِ: اگر یا جب ضروری ہوا، اگر ضرورت ہوئی، ضرورت ہونے پر۔ فی غیرِ حاجةٍ: کچھ زیادہ ہی، ضرورت سے زیادہ۔ مابه الحاجة ضروری بنیادی عنصر یا چیز، لازمی جزء۔ مَحَلَّ الحاجةِ: ضروری عبارت کا ٹکڑا، اہم نکات، خلاصہ، ملخص، جوہر، لب لباب، کسی مسئلہ کا انتہائی اہم یا مشکل حصہ، (بیان، تشریح کا) دلچسپ حصہ۔ سَدَّ حاجته: کی ضروریات پوری کرنا، کی ضروریات یعنی خرچ چلانا۔

قَضَى حاجته: کی خواہش پوری کرنا، قضی الحاجة: حوائج ضروریہ سے فارغ ہونا۔ حَاجِيات: روزمرہ کی چیزیں عام استعمال یا گھر کے استعمال کی چیزیں، برتن، ضروری خدمات، ضروریات، لوازمات، لوازم، ضروریات زندگی۔ أَحْوَجُ اِلَی: کی زیادہ احتیاج والا، کا زیادہ ضرورت مند، اَحْوَج: زیادہ ضروری، احتیــاج: طلب، ضرورت، مطلوبہ چیز، احتیاج، بنیادی شرط، شرط اولین جمع احتیاجات: ضرورتیں، ضروریات زندگی، ضروریات، لوازمات، لوازم۔ مَحَاوِيج واحد مُحْوِج: ضرورت مند، حاجتمند محتاج، غریب، مفلس، قلاش لوگ، مُحْتَاج اِلی: کا ضرورت مند، کا حاجتمند، مُحْتَاج: مفلس، قلاش، غریب۔ حَوْجَلَة جمع حَوَاجِل: چھوٹی شیشی۔

حاد: حَادَ ـُ حَوْدًا عنه: سے ایک طرف ہٹنا حَاوَدَهُ بالزيارة: کے پاس جاتے رہنا۔ تُهُ الحُمَّى: کو بار بار بخاری آنا۔

○ حَادَ ـُ حودًا عن: سے ایک طرف ہٹنا دوسری سڑک پر جانے کے لئے کسی سڑک کو چھوڑنا۔ حَوَّدَ: دوسری سڑک پر جانے کے لئے کسی سڑک کو چھوڑنا، موڑ مڑنا۔ حَوْدَة: موڑ، مڑنا۔

حاذ: حَاذَ ـُ حَوْذًاهُ: کی حفاظت کرنا —الدابَّةَ: جانور کو تیز ہانکنا۔ — علی الشيء: کی نگہبانی کرنا۔ اَحْوَذَ الدابَّةَ: جانور کو تیز ہانکنا۔ —السَيرَ: تیز چلنا۔ — ثوبَهُ: کپڑے سمیٹنا۔ — الشاعرُ قصيدتَهُ: شاعر کا عمدہ قصیدہ کہنا۔ اِسْتَحْوَذَ عليه: پر غلبہ اور قبضہ کرنا۔ الحُوذِيّ: گھوڑوں اور جانوروں کو ہانکنے والا کوچوان، گاڑیبان، ڈرائیور، عام لوگ اسے العربجی کہتے ہیں۔ الأَحْوَذِيّ: ہر کام میں پھرتیلا، ماہر، تیز دست۔

۲۔ الحَاذ واحد حاذة جمع آحاذ (ن): ایک قسم کا درخت (عام لوگ اسے الحوز کہتے ہیں) پیٹھ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ خفيف الحاذ: وہ کم مال والا ہے۔ خفيف الظهر بھی اس معنی میں ہے۔ الحواذ: دوری، جدائی۔

۳۔ الحَوْذَان (ن): ایک پھولدار بوٹی، جو معتدل حرارت رکھنے ممالک میں پائی جاتی ہے اس کے پھول خوبصورت اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔

○ حَاذَ ـُ حَوْذًا ہ: جانوروں کو آگے بڑھانا، ایڑ لگانا، منہ کرنا۔ اَحْوَذَ بمعنی حَاذَ۔ اِسْتَحْوَذَ علی: پر خصوصا جذبات کا زبردست اثر کرنا، کو مغلوب کرنا، پر

قابو پانا، کو قابو میں لانا، کا بہتر حصہ لینا، پر مہارت حاصل کرنا، سے استفادہ کرنا، پر قبضہ کرنا، کو غصب کرنا۔ حُوذِي: کوچوان، بگھی والا، گاڑی بان، ڈرائیور۔ حُوذِية: کوچبانی، گاڑی بانی، ڈرائیوری۔

حار: ۱۔ حَارَ ـُ حَوْرًا و حُؤُورًا و مَحَارًا و مَحَارَةً: واپس ہونا، حَاوَرَ مُحَاوَرَةً و حِوارًا و حَوَارًا: سے گفتگو کرنا، کو جواب دینا۔ اَحَارَ اِحَارَةً الجواب: جواب دینا۔ اسی سے ہے۔ لَمْ يُحِرْ جوابًا: اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا جاتا ہے: طحنتِ الطاحِنةُ فما اَحَارتْ شيئًا: چکی پیسنے والی نے چکی پیسی اور آٹا کچھ بھی نہیں دیا۔ تَحَاوَرَ القومُ: ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کو جواب دینا۔ اِسْتَحَارَهُ: سے گفتگو کرانا۔ المَحَارَة: واپسی، واپسی کی جگہ۔ المَحُورَة والمَحُورَة: جواب۔

۲۔ حَارَ ـُ حَوْرًا و حُؤُورًا و محارًا و مَحَارَةً: متحیر ہونا۔ الحَائِر (فا): مُتَحَيِّر، الحائِرَة: الحائر کا مونث۔

۳۔ حَارَ ـُ حَوْرًا الثوبَ: کپڑے کو دھونا، سفید کرنا۔ حَوَّرَ الثوبَ: کپڑے کو سفید کرنا۔ اِحْوَرَّ اِحْوِرَارًا: سفید ہونا۔ الحَوَر جمع أَحْوَار: سفید پتلے چمڑے، گائے۔ الحَوَارِيّ: دھوبی، نصیحت کرنے والا، قریبی دوست مددگار، بعض کے نزدیک انبیاء کا مددگار اسی سے ہے الحَوارِيُّون: حضرت عیسیٰ کے مددگار و انصار۔ الحَوَارِيَّة جمع حَوَارِيَّات: الحواری کا مونث، شہری عورت۔ الأَحْوَرِيّ: سفید، نرم، ملائم۔ الحُوَّارَى: سفید آٹا (طا) کھریا مٹی، ہر سفید کرنے والی چیز۔

۴۔ حَارَ ـُ حَوْرًا: کم ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ حَارَ بعدما كارَ: وہ زیادتی کے بعد گھٹ گیا۔ — الشيءُ: کسی چیز کا نا قابل فروخت ہونا۔ حَوَّرَهُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو محروم کرنا۔ نا کام کرنا، اَحَارَ البعيرَ: اونٹ کو ذبح کرنا۔ الحُور: کمی، نقصان۔ (کہا جاتا ہے: انه فی حُوْرٍ و بُورٍ: وہ نہ کسی صنعت ہی میں ہے اور نہ کسی آمدنی میں) ہلاکت۔ الحَوْرُ: نقصان کمی، کہا جاتا ہے: هذا ہ و الحَوْرُ بعد الكَور: یہ زیادتی کے بعد نقصان ہے۔ نیز کہا جاتا ہے: ما اصبتُ حَوْرًا: میں نے کچھ نہیں پایا۔ الحائر لاغر، دبلا۔ الحائِرَة: الحائر کا مونث، کہا جاتا ہے۔ ماهو الاحائرة من الحوائر: اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ المحَارَة: کمی۔

۵۔ حَوِرَ ـَ حَوَرًا تِ العينُ: آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اور سیاہی کا بہت سیاہ ہونا صفت: حَوْرَاء: ایسی آنکھوں والا اَحْوَر (جمع حُوْر) کہلاتا ہے۔ اِحْوَرَّ اِحْوَرارًاَت العینُ: آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید اور سیاہی کا بہت سیاہ ہونا۔

۶۔ حَوَّرَ القرسَ: روٹی کے پیڑے کو بیلن سے بیلنا۔ المِحْوَرَ جمع مَحَاوِر: روٹی پکانے والے کا بیلن۔ لوہے کا ٹکڑا جس پر چرخی گھومے (می) چرخ کا دھرا، وہ ٹکڑا جس پر کوئی چیز گھومتی ہے (کہا جاتا ہے: قَلِقَتْ محاورُہ: اس کا معاملہ بگڑ گیا) ہ: سیدھی لکیر جو کرہ کے قطبوں کو ملائے۔ مِحْوَر الأرض (فلك): خط مستقیم جس کے گرد زمین گھومتی ہے۔ الحارۃ: مدار فضائی۔

۷۔ حَوَّرَ الادیمَ: کھال کو سرخ رنگ دینا الحَوَر جمع اَحْوَار: سرخ رنگ سے رنگا ہوا چمڑا۔ المُحَوَّر: جس کا اندرونی حصہ سرخ رنگ کے چمڑے سے دھکا ہوا ہو۔ خُفٌّ مُحَوَّر: سرخ چمڑے کے استر والا موزہ۔

۸۔ اَحَارتِ الناقةُ: اونٹنی کا دودھ پیتے بچہ والی ہونا۔ الحُوَار و الحِوار جمع أَحْوِرَة وحِیران (ح): اونٹنی کا وہ بچہ جس کا دودھ ابھی چھڑایا نہ گیا ہو۔

۹۔ الحَوْرُ: گہرائی، تہ، کہا جاتا ہے: بعیدُ الحَوْر: گہرائی تک پہنچنے والا عقلمند۔ الحَوَر (ن): ایک سیدھا سا بلند قامت سفید درخت جو بہت جلد بڑھتا ہے۔ الحَارَة: وہ جگہ جہاں مکانات قریب قریب ہوں۔ محلّہ، کہا جاتا ہے نزلنا فی حارۃ بنی فلان: ہم بنی فلاں کے محلّہ میں فروکش ہوئے۔ الحَوْرَاء (ح) (علم الحشرات میں): کیڑے کے پہلے روپ اور مکمل کیڑے بننے کے درمیان کا عبوری عرصہ، اسے حوراء الفراشات خادرۃً و حوراء الذبّان و بعض الحشرات یرقاً: ست پتنگوں کا عارضی دور اور مکھیوں کے ابتدائی روپ کا عبوری دور بھی کہا جاتا ہے۔ المَحَارَۃ: اونٹ کی تلی، تالو، سیپی یا سیپی کی ہم شکل ہڈی، مَحَارۃُ الاذن: کان کا گڑھا۔

○ حَارَ ـُ حوراً الی: کی طرف واپس لوٹنا، پیچھے ہٹنا، تک کم ہونا۔ حَوَّرَ ہ / من: کو تبدیل کرنا، میں ترمیم کرنا، کو سیدھا راہ پر لانا، کی قلب ماہیت کرنا، دوبارہ تنظیم کرنا، کو بدل کر زم کرنا، کو بدلنا۔ — ہ: گندھا ہوا آٹا بیلنا، کسی چیز کو سفید کرنا، (کپڑے کا) رنگ اڑانا۔ حَاوَرَہ: سے بات چیت کرنا، باتیں کرنا۔ — : بحث کرنا، بحث میں حصہ لینا، غور و فکر کرنا، مباحثہ منعقد کرنا، بحث میں اپنے نقطہ نگاہ پر زور دینا۔ اَحْوَرَ جواباً: جواب دینا، نفی میں جواب دینا۔ تَحَوَّرَ: تبدیل ہو جانا ترمیم ہو جانا، کایا پلٹ ہو جانا تنظیم نو ہونا، بدل جانا، بدل کر زم ہونا۔ تَحَاوَرَ: بحث جاری رکھنا۔ حَوَر: ایک سفید رنگ کا سیدھا بلند قامت درخت جو بہت جلد بڑھتا ہے۔ بکری کی بھورے یا بادامی رنگ کی کھال۔ نازبو، ریحان، آنکھ کے شفاف پردہ کی سفیدی اور پتلی کی جھلی کے سیاہ حصہ کے مابین واضح فرق۔ حَارَۃ جمع حارات: شہر کا ایک حصہ، اقلیتی باڑہ، گلی، کوچہ، بغلی گلی (جس کی جمع کبھی کبھار حَوَاری بھی آتی ہے)۔ حارۃ السدّ: بندگلی، اَحْوَر مونث حَوْرَاء جمع حُوْر: جس کی آنکھوں میں سفید و سیاہ کا نمایاں فرق ہو۔ سیاہ و سفید کے نمایاں فرق والی آنکھ، بہت سفید اور گہرا سیاہ۔ حَوَّارَۃ: چاک، کھریا مٹی کا ٹیلہ۔ حَوَارِی جمع حواریون: حضرت عیسٰی علیہ السلام کا شاگرد، مبلغ، معتقد یا پیرو۔ حُوَّرَی: کھریا مٹی کا ٹیلہ، چاک۔ حُوْرِیَة جمع حوریات و حُوْر: حور، پری، حسین عیش پرست عورت، بہشت کی کنواری، اپسرا، پہاڑ، جنگل یا سمندر کی دیوی یا زن خوبرو جمع حوریات: نوجوان ٹڈی۔ حوریة الماء: جل پری، حَوْرَان: جنوب غربی شام اور شمالی اردن میں ایک پہاڑی سطح مرتفع۔ مِحْوَر جمع مَحَاوِر: بیلن، چول، محور، مدار مرکزی نقطہ، مرکز، گودہ، مغز، گری وسط، بیچ کا حصہ۔ دھرا۔ وہ فرضی خط جس پر کوئی چیز گردش کرتی ہے۔ گول لکڑی دھرے کا ڈنڈا، گول ڈنڈی۔ مَحَار: اسم جنس واحد مَحَارَۃ) کستورا مچھلیاں، گھونگے، جھینگے، کھپرے دار مچھلیاں، صدفی مچھلیاں بعض سیپیوں کی اندرونی چمکدار سطح، مَحَارَۃ: صدفہ، گھونگھا، جھینگا، گھونگھے، صدفہ یا جھینگے کا خول، کرنی، کھرپی۔ حِوار: بات چیت، گفتگو، مکالمہ، بحث، جھگڑا، تاریخ، (کسی کھیل کا) متن، دستی تحریر، تقریر وغیرہ کا مسودہ، ڈرامے کے کردار کے حصے کے الفاظ، (فلم کا) منظر نامہ، سیناریو۔ مُحَاوَرَة: بات چیت، گفتگو، مکالمہ، بحث، نزاع تحاور: بحث، مباحثہ۔

حاز: ا۔ حَازَ ـُ حَوزاً و حِیازَةً و اِحْتَازَ اِحْتِیازاً الشیءَ: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، حاصل کرنا۔ الحَوْز: چاردیواری سے محفوظ کی ہوئی جگہ۔ حَوْزُ الدار: گھر کے متعلقات، جیسے باورچی خانہ، غسل خانہ، طویلہ، اصطبل وغیرہ۔ الحَوْزَة: کنارہ۔ حوزۃ المملکۃ: سرحدوں کے درمیان وسطی حصہ۔ الحَوَّاز: الحائز کا مبالغہ [illegible] گناہ دلوں پر پورا قابو پا لیتا ہے اور ان پر اتنا غلبہ حاصل کر لیتا ہے کہ ناپسندیدہ کام تک سرزد ہونے لگتے ہیں۔ الحَوْزَاء: لڑائی، جنگ جس کے لئے ایک بڑا لشکر جمع کیا جاتا ہے۔ الحُوَیزاء: ساتھی سے پوشیدہ رکھا ہوا ذخیرہ۔ الحَیْز و الحَیِّز: جگہ، کہا جاتا ہے: ھذا فی حیز التواتر: اس کا ثبوت تواتر کے درجہ میں ہے۔

۲۔ حَازَ ـُ حَوْزاً الرجلُ: آہستہ چال سے چلنا۔ — واِحْتَازَ اِحْتِیازاً الابلَ: اونٹوں کو نرمی سے ہانکنا۔ حَوَّزَ تَحْوِیزاً الابلَ: اونٹوں کو پانی کی طرف لیجانے کی پہلی رات کو اونٹوں کو پانی کی طرف ہانکنا۔ لیلةُ الحَوْز: پہلی رات جس میں اونٹوں کو پانی کی طرف لیجایا جاتا ہے۔ الحُوزِیّ: اونٹوں کو ہانکنے والا، ساربان۔ الأحْوَزِیّ: اچھا ہانکنے والا۔ ماہر، ہر کام میں پھرتیلا اور چست۔

۳۔ حَاوَزَ مُحَاوَزَةً ہٗ: کو پاؤں سے روندنا، کے ساتھ زندگی گزارنا، سے میل ملاپ رکھنا۔ اِنْحَازَ الیه: کی طرف مائل ہونا۔ عنه: سے پھر جانا ہٹ جانا۔ الحَوزة: طبیعت۔

۴۔ حَاوَزَ مُحَاوَزَةً ہ: کو دھتکارنا۔ تَحَوَّزَ: کنارہ کش ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ دخل علیه فما تحوزله: وہ اس کے پاس آیا تو اس کے لئے علیحدہ نہیں ہوا۔ —ت الحیّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ تَحَاوَزَ الفریقان: دو فریقوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ اِنْحَازَ اِنْحِیازاً القومُ: قوم کا مرکز کو چھوڑ دینا، شکست کھانا، پسپا ہونا۔ — عنه: سے پھر جانا، ہٹ جانا۔ —الیه: کی طرف مائل ہونا۔ الحُوزِیّ: قوم کو چھوڑ کر علیحدہ فروکش ہونے والا۔ سیاہ۔

○ حَازَ ـُ حَوزًا و حَیازَةً ہ: کو رکھنا، کا مالک ہونا پر قابض ہونا، (کامیابی، فتح وغیرہ) کو حاصل کرنا، جیتنا، وصول کرنا، کا قبضہ حاصل کرنا، کا کنٹرول حاصل کرنا، کی بلاشرکت غیرے تجارت کرنا۔ حَازَ ـِ حَیزاً ہ: اونٹوں کو ہانکنا، ہانک کر لیجانا۔ تَحَوَّزَ و تَحَیَّزَ: درد سے پہلو بدلنا، اینٹھنا، تشنج ہونا، جسم کو ادھر ادھر جھکانا بل کھانا، کنڈلی بنانا، لوٹ پوٹ ہونا، تڑپنا۔ تَحَیَّزَ عن: سے دور رہنا، علیحدہ ہونا۔ — الی: کا مددگار ہونا، کی طرف مائل ہونا، جھکنا، سے رغبت ہونا، کی طرف رخ ہونا، سے متحد ہونا، سے مل کر کام کرنا، سے آملنا یا جاملنا، میں شامل ہونا، — الی / ل: کی حمایت کرنا، کا ساتھ دینا، کی طرف داری کرنا، جانبداری کرنا، اِحْتَازَ ہ: پر قابض ہونا کا مالک ہونا، کو رکھنا، کا قبضہ لینا، — ہ عن:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کو ـــ سے دور رکھنا، کو ـــ سے منع کرنا، روکنا۔ حَوز: قبضہ، موجودہ مال، قبضہ، علاقہ، ملکیت، حصول، یافت، اکتساب، تحصیل قبضہ لینا، قبضہ، دخل، تصرف، کرایہ داری، پٹہ داری۔ جمع احواز: چار دیواری، احاطہ، احاطہ بندی، حد، سرحد، محصور جگہ، گرد و پیش، قرب و جوار، نواح شہری حدود۔ حُوزی: قابضانہ، حق قبضہ کا۔ حوزۃ: قبضہ، موجودہ مال، حق قبضہ، حق لگان داری، عہدے کی مدت یا شرائط۔ جائداد، علاقہ۔ فی حوزیہ یا فی حوز یدہ: ـــ کے قبضہ میں۔ الدفاع عن حوزۃ مصر: مصری علاقہ کا دفاع۔ حَیز و حَیّز جمع احیاز: جگہ، دائرہ، میدان، مار، فاصلہ، سلسلہ، دسترس، رسائی، پہنچ، حد، وسعت، حد، حدود، کنارہ، میدان، قلمرو، کرہ، فلک، دائرہ، حلقہ۔ لا یدخل فی حیز المعقول: یہ سمجھ کی حدود کے اندر نہیں۔ برز الی حیز المعقول: حقیقت کی قلمرو تک بڑھنا یعنی حقیقت بن جانا۔ فی حیز الامکان: امکان کی قلمرو کے اندر، بالکل ممکن۔ حِیازۃ: قبضہ، موجودہ مال، قبضہ لینا، قبضہ، ملکیت، لقب، خطاب یا عہد کا حصول، حق قبضہ کا حصول حصول۔ تحیز: جانب داری، طرف داری، بے جا حمایت، میلان، تعصب، بدظنی، بدگمانی، رجحان، التفات۔ انحیاز: تنہائی، علیحدگی، گوشہ نشینی۔ خلوت، خانہ نشینی، عزلت، طرف داری، جانبداری، تعصب، بدظنی، بدگمانی۔ حائز: قابض، حامل، کرایہ دار۔ متحیز: طرف دار، جانبدار، متعصب۔ مُنحاز عن: ـــ سے علیحدہ، ہٹا ہوا، عزلت گزین، جدا، ـــ سے اجنبی، ـــ سے باہر کا غیر متعلق شخص۔

حاس: ۱۔ حَاسَ ـُ حَوسًا القومَ: کو روندنا ذلیل کرنا، ـــ سے میل ملاپ کرنا۔ ـــ الذئبُ الغنمَ: بھیڑیا کا بکریوں میں گھس کر ان کو تتر بتر کر دینا۔ الجزّارُ الإهابَ: قصائی کا کھال اتارنا۔ ـــ ت المرأۃُ ذیلَها: عورت کا دامن کو کھینچتے ہوئے روندنا۔ الأحوَس جمع حُوس: بھیڑیا۔ الحُواسۃ: غنیمت۔

۲۔ حَوِسَ ـَ حَوَسًا: دلیر اور منچلا ہونا۔ ـــ تَحَوَّسَ: دلیری اختیار کرنا۔ ـــ فی الکلام: کلام کے لئے تیار ہونا۔ الاحوس جمع حُوس: بہادر، دلیر۔ الحَوَّس: بہت سے لوگوں کو قتل کرنے والا بہادر۔

۳۔ تَحَوَّس للشیءِ: ـــ کے لئے دردمند ہونا۔ الاَحوَس جمع حُوس: جو کسی شئے سے سیر نہ ہو۔ الحُواسۃ: حاجت، ضرورت۔ والحُوَیساء: قرابت، رشتہ داری۔

۴۔ استحوس استحواسا: رکنا، دیر لگانا۔

○ اِحتَوَسَ: ہچکچانا، ادھر ادھر ہلنا، پس و پیش کرنا، گومگو کی حالت میں ہونا۔

حاش: ۱۔ حَاشَ ـُ حَوشًا الابلَ: اونٹوں کو اکٹھا کر کے ہانکنا۔ حَوَّشَہ: کو بہت جمع کرنا۔ تَحَاوَشُوا علیہ: کو اپنے درمیان میں لے لینا۔ اِحتَوَشَ القومُ الرجلَ و علیہ: لوگوں کا کسی کو گھیر کر اپنے درمیان میں لے لینا۔ اِنحَاشَ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الحَوش: گھر کا اردگرد، باڑہ۔ حائِشُ الشجر: درخت کا گنجان اور گھنا حصہ۔ الحُواشۃ: قرابت، رشتہ داری۔

۲۔ حَاشَ ـُ حَوشًا وَ اَحَاشَ احاشۃً و اَحوَشَ اِحواشًا الصیدَ: شکار کو پھندے کی طرف لانے کے لئے چاروں طرف سے گھیرنا۔ علیہ الصیدَ و اَحوَشَہُ ایّاہ: شکار کو شکار کرنے میں کسی کو مدد دینا۔ اِنحَاشَ لہ الصیدُ: شکار کا (شکاری) کے پاس خود آنا۔ اِحتَوَشَ القومُ الصیدَ: شکار کو ایک کا دوسرے کی طرف بدکانا۔ اِستَحوَشَ اِستحوَاشًا الصیدَ: شکار کو گھیر کو پھندے کی طرف لانا۔

۳۔ حَوَّشَ الرجلُ: تیار ہونا، بہادر و شجاع ہونا۔ حَاوَشَہُ علی الامر: کو کسی کام پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔ رجلٌ حُوشُ الفؤاد: تیز فہم آدمی۔

۴۔ تَحَوَّشَ عنہ: ـــ سے کنارہ کش ہونا۔ ـــ منہ: ـــ سے شرم و حیا کرنا۔ اِنحاشَ عنہ: ـــ سے نفرت کرنا۔ الحُواشۃ: شرم و حیا کا سبب۔ الحُوشِی: تنہائی پسند۔ ـــ من الکلام: نادر اور غریب الکلام۔ ـــ من اللیالی: تاریک رات۔

○ حَاشَ ـُ حَوشًا ہ: شکار کو گھیرنا، جال میں لیجانا۔ کسی چیز کو روکنا، منع کرنا، کی راہ میں حائل ہونا، ـــ کے آگے بند باندھنا، کو مخفی رکھنا۔ حَوَّشَ ہ: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کا ڈھیر لگانا، ـــ کے انبار لگانا، کو بٹورنا، (تعداد یا مقدار میں بڑھانا کا ذخیرہ، کرنا، کو سینت سینت کر رکھنا، (روپیہ) کو بچانا کو مستقبل کے لئے پس انداز کرنا، کو پانا، حاصل کرنا، ـــ کے ہاتھ لگنا۔ حَوش جمع اَحوَاش حیشان: علاقہ جس کے گرد چار دیواری ہو، چار دیواری، صحن۔ حَوَش: بھیڑ، ہجوم، اراذل، کمینے، گھٹیا لوگ۔ حُوشی: جنگلی، غیر معمولی، عجیب سا، عجیب، ناواقف، نامعلوم۔ اُسبوعُ الحاش: حضرت مسیح کے مصائب بیان کرنے کا ہفتہ۔

حاص: ۱۔ حَاصَ ـُ حَوصًا و حِیاصۃً حولہ: ـــ کے گرد منڈلانا، ـــ کے اردگرد پھرنا۔

۲۔ حَاصَ ـُ حَوصًا حیاصًا الثوبَ: دور دور ٹانکے ـــ کا ـــ سینا بیٹھنا ـــ کو ـــ سینا۔ حَوِصَ ـَ حَوَصًا: ـــ کی آنکھ کا پچھلا حصہ تنگ ہونا، صفت: اَحوَص مونث حَوصَاء جمع حُوص و اَحَاوِص۔ حَاوَصَہُ: کو آنکھ کے پچھلے گوشہ سے مخفی طور پر دیکھنا۔ اِحتَاصَ اِحتِیاصًا فی امرہ: اپنے کام میں احتیاط کرنا۔ الحَوص: پیچش کا مروڑ۔ کہا جاتا ہے: دَخَلَ فی حوص الناس: وہ لوگوں کے اندر کے معاملات اور کہانی میں دخیل ہوا۔ ماطعنتَ فی حوصہ: تم اپنے ارادہ میں ناکام رہے۔ لأطعنَنّ فی حَوصِك: جو تم نے سیا ہے میں اس کو ادھیڑ کر رکھ دوں گا اور جو تم نے درست کیا ہے میں اسے بگاڑ ڈالوں گا۔ الحُوَص: چھوٹی آنکھوں والے۔ الحِوَاص: لکڑی کی سوئی۔ الحِیاصۃ: جانور کا تنگ۔

۳۔ اِحتَاصَ اِحتیاصًا فی امرہ: اپنے کام میں احتیاط کرنا۔

۴۔ حَوصَلَ الطائرُ: پرندہ کا اپنا پوٹا بھرنا۔ ـــ الحنطۃَ: گیہوں کو جمع کرنا۔ الحَوصَل: پرندہ کا پوٹا، جو انسان کے معدے کا درجہ رکھتا ہے۔ الحَوصَلَۃ و الحَوصَلّۃ و الحَوصَلاء: پرندہ کا پوٹا۔

○ حَوَص: نگاہ کا ترچھا پن۔ اَحوَص مونث حَوصَاء جمع حُوص: ترچھی نظر والا۔ حِیاصۃ: جانور کا تنگ۔ حَوصَل و حَوصَلۃ: پوٹا (پرندے کا) مثانہ، ایک آبی پرندہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے خون سے پالتا ہے۔ الحوصلۃ المرارِیۃ: پتہ، زہرہ، صفرا۔ حُوَیصِل: چھالا، آبلہ، پھپھولا، پانی والا چھالا۔ حُوَیصَلۃ جمع حُوَیصَلات: چھالا، آبلہ، پھپھولا۔

حاض: ۱۔ حَاضَ ـُ حَوضًا: حوض بنانا ـ ـــ الماءَ: پانی جمع کرنا۔ حَوَّضَ: حوض بنانا۔ حولَ الامر: معاملہ کے گرد گھومنا، چکر لگانا۔ تَحَوَّضَ و اِحتَاضَ: حوض بنانا۔ اِستَحوَضَ الماءُ: پانی کا حوض نما گڑھے میں جمع ہونا۔ الحَوض جمع اَحوَاض و حِیَاض و حِیضان: پانی جمع ہونے کی جگہ۔ حَوضُ الاذن: کان کا گڑھا۔ المُحَوَّض: درخت کا تھالا۔ درخت کے اردگرد پانی کا گڑھا۔

۲۔ الحَوضِیّۃ (ن) معتدل آب و ہوا کے علاقوں کا ایک پھولدار پودا، جس کے پھول بڑے اور کئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے اور ستارے کی شکل کے پانچ کٹ ہوتے ہیں۔

○ حَوض جمع اَحوَاض و حِیاض و حِیضان: رود بار، طاس، تسلا، لگن، تشت، پانی کی کنڈی، ڈونگی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جیسی پانی کی شکل کی کنڈی، تالاب چو بچہ، ٹینکی، حوض، خزانہ آب، کوئی شے رکھنے کے لئے ڈبہ، بوتل وغیرہ، قدرتی تالاب۔ کُــنـد مصر کے آبپاشی کے نظام میں) زمین کا وہ قطعہ جس کے گرد کھائیاں ہوتی ہیں جن میں دریائے نیل کا سیلابی پانی جمع ہوتا ہے۔ جوہڑ، پیڑو، عانہ، پھولوں کی کیاری، گودی۔ جــمــع حِیــاض: مقدس زمین، علاقہ، عملداری، ریاست، تعلقہ، جاگیر، مقدس مقام، عبادت خانہ، حرم۔ خلوت کدہ۔ حــوض جاف: خشک گودی۔ حوض حَمّام: نہانے کا ٹب۔ حوض عوّام: تیرتی گودی۔ ذاد عــن حِیــاضِہ: کا دفاع قبول یا اختیار کرنا کا حامی بننا، اپنا دفاع کرنا۔ ذب عــن حِیــاضِ الــدیــن: دین کا دفاع کرنا۔ احــواضُ الفحم الحدید: کوئلے اور لوہے کے تہ نشین مادے۔ خوبصۂ گردوں کا پیڑو۔

حــاط ۱۔ حَــاطَ ـُ حَــوْطــاً و حِیْــطَةً و حِیَــاطَةً ہٗ: کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا حَـــوَّطَ ہٗ: کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، اِحْتَــاطَ الــرجــلُ: اپنے امور میں ہوش وحواس سے کام لینا۔ ــعــلــی الشیء: کی محافظت کرنا۔ ــلِــنَفْسِہٖ: بہت محتاط ہونا، پر اعتماد ہونا تَــحَــوَّطَ ہٗ: کی حفاظت کرنا، کہا جاتا ہے۔ فــلانٌ یتــحــوط اخاہ حیطةً حــسنةً: فلاں شخص اپنے بھائی کی اچھی دیکھ بھال رکھتا ہے۔ اِسْتَــحــاط فــی امــرہ او تجارتہ: اپنے کام یا تجارت میں بڑی احتیاط سے کام لینا۔ الــحَــوْط: کوڑیاں یا مہرے پر دیا ہوا دھاگا جو نظر بد سے بچنے کے لئے کمر پر باندھا جاتا ہے۔ الــحَوْطَة و الحَیْطَة: احتیاط۔ الحِیْطَة بــمعنی الحَوْطَة: پاکدامن شریف عورت۔ الحائِط جمع حِیــطــان و حِیَــاط (فا) الحَوَّاط: حائط کا مبالغہ کا صیغہ۔ الأحْـــوَط: بہت احتیاط کرنے والا، قابل اعتماد (احتیاط سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے خلاف قاعدہ ہے)۔

۲۔ حَــاطَ ـُ حَــوْطــاً و حِیْــطَةً و حِیَــاطَةً بہ: کو گھیرنا، کا احاطہ کرنا، کو اتفاقاً پالینا۔ حَــوَّطَ الســاحة: کھلی جگہ کے گرد دیوار بنانا۔ ــالــحــائطَ: دیوار بنانا۔ حــول الامر: کے گرد، چکر لگانا۔ حَــاوَطَہٗ: کسی ایسی چیز کے حصول کے لئے چکر کاٹنا جس کے دینے سے کسی کو انکار نہ ہو۔ اَحَــاطَ و اِحْــتَــاطَ بــہ: کو چاروں طرف سے گھیرنا، کا احاطہ کرنا، کہا جاتا ہے: اَحَــاطَ بــالامــر علماً: کے بارے میں پوری طرح باخبر ہونا۔ الحائِط جمع حِیْطَان و حِیَاط: دیوار، باغ۔ المُحِــیــط: اسم فاعل (ھ): دائرہ کا احاطہ کرنے والا خط، گردو پیش، ماحول جسمیں انسان رہتا ہے۔ البحر المحیط: بحر اوقیانوس۔ المحَاطَ: وہ جگہ جو لوگوں اور چوپایوں کے پیچھے اور ارد گرد ہو۔ باڑ، باڑہ۔ حُــوَّاطُ الأمــر: کسی کام کا مدار، قوام۔ حُوَاطة: کھانا رکھنے کی الماری۔ التَحْوِیْطَة: دائرہ کی طرح صف بندا بیات۔

۳۔ الــحَــوْط: چاندی وغیرہ کا بنا ہوا چاند جس سے بچہ کی آرائش کی جاتی ہے۔ الــحِوَط ناقص درہموں کو پورا کرنے والی چیز۔

○ حَــاطَ ـُ حَــوْطــاً و حِیْطَةً و حِیــاطَةً ہ / ھ: کی حفاظت کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کا نگران ہونا کی نگرانی کرنا۔ — ھ: کی طرف توجہ کرنا، کی نگہداشت کرنا، کی دیکھ بھال کرنا۔ — ب: کو گھیرنا، گھیرے میں لینا، حلقے میں لینا، کا احاطہ کرنا، ملفوف کرنا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کرنا۔ حَوَّطَ ھ کے گرد دیوار بنانا، کا دیوار سے احاطہ کرنا، کو گھیرنا، گھیرے میں لینا، حلقے میں لینا، کا احاطہ کرنا، کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیر لینا، سب طرف سے گھیرے میں لے لینا۔ حَـــاوَطَ ہ: سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرنا، کو جل دینے، ٹھگنے یا سے زیادہ چالاک بن کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، کو گمراہ کرنا، ورغلانا، بہکانا، پھسلانا۔ اَحَاطَ ب: کو گھیرے میں لینا۔ — ہ/ ھ ب: کا ہے احاطہ کرنا کو سے گھیرنا، گھیرے میں لے لینا۔ — ھ/ب: کے گرد گھیرا ڈالنا، کو محصور کرنا، کا احاطہ کرنا، ملفوف کرنا کو گلے لگانا، آغوش لینا، قبول کرنا، اختیار کرنا، پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا، — ب: کے گرد گھیرا ڈالنا۔ — ہ/ھ ب: کے گرد سے گھیرا ڈالنا، کو سے گھیر لینا، کو سے گھیرے میں لینا، کو سے حلقہ میں لینا۔ — ب: کو سب طرف سے گھیر لینا۔ — ب: سے اچھی طرح آگاہ ہونا، کو پوری طرح سمجھنا، کا ادراک کرنا، کو مکمل طور پر سمجھنا، سے واقف ہونا، پوری طرح شناسا ہونا۔ اَحَاطَ بِــہٖ عِلماً: کو پوری طرح جان لینا، کا وسیع علم رکھنا، پر توجہ کرنا، کی طرف توجہ کرنا۔ اَحَــاطَہُ عــلماً ب: اس نے اسے اس کی اطلاع دی۔ اس نے اسے اس کے بارے میں آگاہ کیا، وہ اسے اس کے نوٹس میں لایا۔ تَــحَوَّطَ ہ/ ھ: کی حفاظت کرنا، کے بارے میں حفظ ماتقدم کے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ — ھ: پر توجہ کرنا۔ —: محتاط ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا، ہوشیار ہونا۔ اِحْتَـــاطَ محتاط ہونا چوکنا چوکس یا ہوشیار رہونا، خبردار ہونا، — ل: کو یقینی بنانے کے لئے احتیاطی تدابیر کرنا، تیاریاں کرنا۔ — ب: کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیر لینا، کو گھیرے میں لینا۔ — ب عــلــی: کی سے حفاظت کرنا۔ — ب: کی نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا، پر توجہ دینا کی دیکھ بھال کرنا، — ان دیکھنا کہیں، خیال رکھنا کہ مبادا...... حِیْطَة و حَیْطَة و حَــوْطَة: دور اندیشی، احتیاط، خبرداری، ہوشیاری، چوکسی، عاقبت اندیشانہ توجہ، مصلحت بینی، عاقبت اندیشی، دانائی، نگہبانی۔ اَخَــذَ حِیطَــتَہُ: چوکنا ہونا، چوکس ہونا، ہوشیار ہونا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ بــلا حیــطةٍ بے سوچے سمجھے، بے پروائی سے، نادانستہ۔ حِیَاطَة: حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، پہرہ دینا، حفاظت، نگرانی تحویل، فکرمندی۔ تَحْوِیط: گھیر لینا۔ اِحَاطَة گھیر لینا، گھیرا، ادراک، فہم، سمجھ، گرفت، وسعت نظر، علم، واقفیت، دانش، آگاہی۔ — ب: کا علم، سے واقفیت، شناسائی، —: اطلاع، رابطہ، مکتوب، مراسلہ۔ تَحَوُّط: اہتمام، تیاری، فکر، توجہ، احتیاط، ہوشمندی۔ جــمــع تَــحَــوُّطــات: احتیاطی تدابیر، اقدامات یا کارروائیاں۔ اِحْتِیَاط: اہتمام، تیاری، توجہ، احتیاط، پیش بندی حفظ ماتقدم، چوکسی، خبرداری، آگاہی، احتیاطی تدبیر جمع احتیاطات: احتیاطی تدابیر، کارروائیاں یا اقدامات۔ عــلــی سبــیل الاحتیــاط: احتیاط کے طور پر، احتیاطی تدبیر کے طور پر، خطرہ مول لئے بغیر۔ احتیـــاطـــی: احتیاطی، اضباطی (دوا، علاج) مانع، امتناعی، انسدادی، دافع، بدل، قائم مقامی، جانشینی، عوض، غیر مستعمل، جو وقت ضرورت کے لئے اٹھا رکھا جائے کا زائد (پرزہ وغیرہ) محفوظ یا فاضل (چیز) بوقت ضرورت کام آنے والی (چیز)، شخص یا چیز جو قائم مقام یا بدل کے طور پر یا ہنگامی حالت میں دستیاب ہو۔ محفوظ سرمایہ، ریزرو فوج، فاضل فوج۔ حــبــسٌ احتیـــاطـــی: تحقیقات کی تکمیل تک نظر بندی، قید یا حراست، تــدابیــرُ احتیــاطیــةٌ: احتیاطی اقدامات، کارروائیاں یا تدابیر، قواتٌ احتیــاطیــة: ریزرو فوج، فاضل فوج۔ مـــال احتیـــاطـــی: محفوظ سرمایہ۔ احتیــاطـــیُّ الزیت الخام: تیل جو بوقت ضرورت کام میں لانے کے لئے محفوظ کیا گیا ہو۔ حَائِط جمع حِیــطــان و حِیــاط و حَوَائِط: دیوار۔ حــائط المَبْکَی: (یروشلم میں) دیوار گریہ۔ اَلْقَی (ضــربَ) بــہ عُــرضَ الــحــائط: کو غیر اہم غیر سنجیدہ سمجھنا، کو مسترد کرنا، بے کار سمجھ کر پھینک دینا، ترک کر دینا کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، کو حقیر جاننا، سے نفرت کرنا، ذلیل جاننا، کو تباہ کر دینا، ناکام بنا دینا۔ حَوِیط: چالاک، ہوشیار طباع، حاضر جواب، ہونہار، سمجھدار، ہوشمند، زیرک۔ مُــحِــیــطٌ ب: کو

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گھیرے ہوئے، کو گھیرنے والا ـ سے واقف، آگاہ، شناسا، جمع محیطات: محیط، گھیرا، گھیر، لمبائی، طول، حد، دائرہ، میدان، مار، سلسلہ، دسترس، رسائی، گنجائش وسعت، حد نظر، پہنچ، علاقہ، معاشرتی ماحول گردوپیش، گردونواح، ماحول، سمندر جمع مُحیطات: گردوپیش، گردونواح، ماحول المحیط الأطْلَنْطِي: بحر اوقیانوس ـ المحُیط الھادِی: بحر الکاہل ـ مُحَاطٌ ب. سے گھرا ہوا مُتَحَوِّط: چوکس، ہوشیار، چوکنا، ہوشمند، دور اندیش، دور بین آخر بین محتاط، انجام پر نظر رکھنے والا ـ

حاف: ا ـ حَافَ ـُ حَوْفًا الشيءَ: کو کنارہ پر کرنا ـ حَوَّفَ الشيءَ: کو کنارہ پر کرنا ـ ـ المکانَ: جگہ کو گھیرنا ـ تَحَوَّفَ الشيءَ: کو اس کے کناروں سے کم کرنا، کے کنارہ کو لینا ـ الحَوْف: طرف، کنارہ، گوشہ ـ الحافَة جمع حَافات و حِيف: طرف، جانب کنارا حافتا الوادی و نحوہ: وادی وغیرہ کے دونوں کنارے دونوں جانب ـ

۲ ـ الحَوْف: ازار نما چمڑے کی ایک چیز جس کو بچے پہنتے ہیں ـ الحَافَة جمع حافَات و حِيف: شدت، سختی، حاجت ـ الحَافَان: زبان کے نیچے کی دو سبز رگیں ـ

○ حَوْف: کنارہ، رم (rim) گھیرا، گھر، پہیے کا بیرونی حصہ، چھجا، ساحل، حاشیہ، سنجاف، مغزی، گوٹ، جھالر، پلو ـ حَافَة جمع حافات و حَوَافٍ: باڈر، رم، کنارہ، چھجا، کور، ساحل، جھالر، حاشیہ، پلو، سنجاف، مغزی گوٹ ـ بین حوافیہ: کے اندر اندر، اس میں، کے اندر ـ

حاق: ا ـ حَاقَ ـُ حَوْقًا الشيءَ: کو رگڑ کر چکنا کرنا ـ

۲ ـ حَاقَ ـُ حَوْقًا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا ـ حَوَّقَ علیہ: سے گڑبڑ کلام کرنا، بے تعلق گفتگو کرنا ـ الحُوَاقَة: کوڑا کرکٹ، جھاڑن ـ المِحْوَقَة جمع مَحَاوِق: جھاڑو ـ

۳ ـ حَاقَ ـُ حَوْقًا بہ: کا احاطہ کرنا، کو گھیرنا ـ الحُوق: گھیرا، چوکھٹا ـ الحَوْق و الحَوْقَة: بڑا گروہ، بڑی جماعت ـ

۴ ـ حَوْقَلَ حَوْقَلَةً و حِيقَالاً: چلنے سے تھکنا اور کمزور ہونا، کمزور اور بوڑھا ہونا ـ الشیخ: بوڑھے شخص کا چلتے ہوئے اپنی کمر سے ٹیک لگانا ـ الحَوْقَل: عمر رسیدہ، بوڑھا ـ

۵ ـ حَوْقَلَ حَوْقَلَةً و حِيقَالاً: لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہنا ـ الحَوْقَلَة: لمبی گردن کی شیشی ـ

○ حَاقَ ـُ حَوْقًا ب: کو گھیرنا، کی احاطہ بندی کرنا کا احاطہ کرنا کو لفافے میں بند کرنا، کی باڑھ لگانا، سے گلے ملنا، کو گلے لگانا، آغوش لینا، سے ہم آغوش ہونا ـ حَوَّقَ علی: بمعنی حَاقَ ب ـ حَوْقَلَة: دوائی کی چھوٹی شیشی، کپی ـ

حاك: حَاكَ ـُ حَوْكًا و حِيَاكًا و حِيَالَةً الثوبَ: کپڑا بننا صفت: حَائِك جمع حَاكَة و حَوَكَة مؤنث حائِكة و حائِك جمع حائِكات و حوائك ـ کہا جاتا ہے ـ حَاكَ الشيءُ في صدری: فلاں چیز میرے دل میں جم گئی ـ حاكَ الشاعِرُ القصیدةَ: شاعر نے قصیدہ نظم کیا ـ ما احَاكَ سیفُهُ: اس کی تلوار نے نہیں کاٹا کہا جاتا ہے: ضَرَبَهُ فَمَا احَاكَ فِیهِ سیفُهُ: اس نے تلوار ماری مگر کارگر نہیں ہوئی (یہ ہمیشہ نفی میں استعمال ہوتا ہے) الحَوْك (ن) جنگلی تلسی کہا جاتا ہے: ھذا علی حَوْكِ ھذا: یہ اس کا ہم شکل و ہم عمر ہے ـ المُحَاكَة: کھڈی، کارگاہ ـ المَحْوَكة: لڑائی، جنگ ـ

○ حَاكَ ـُ حَوْكًا و حِيَاكًا و حِيَاكَةً ہ: کو بننا، کو ملا کر بننا، گوندھنا، ملانا، جوڑنا، باہم وابستہ کرنا، (جوڑے وغیرہ) بننا، جوڑا باندھنا چوٹی گوندھنا، موباف لگانا، میں پلیٹ ڈالنا، سازش کرنا، کی تدبیر کرنا، کی ترکیب سوچنا، کا منصوبہ باندھنا، کا منصوبہ بنانا، (قصہ) گھڑنا، (بہانہ) تراشنا، (اپنے تصور میں) منصوبہ بنانا کو گھڑنا یا تخلیق کرنا ـ حِيَاكَة: بننا، سلائی سے بننا، چوٹی گوندھنا، جوڑا باندھنا، پلیٹ ڈالنا ـ حائِك جمع حَاكَة: جولاہا، نورباف، پارچہ باف سفید اونی مواد کے ایک لمبے ٹکڑے سے بنایا ہوا بیرونی لباس جو جسم اور سر کو ڈھک لیتا ہے ـ

حال: ا ـ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً الشيءُ: ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ـ ت القوسُ: کمان کا ٹیڑھا ہونا ـ العھدُ: زمانہ کا پلٹ جانا ـ ـ الی مکانٍ آخر: دوسری جگہ منتقل ہونا ـ حَوَّلَ ہُ: کو زائل کرنا، کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ـ ـ الرجلُ: منتقل ہونا ـ ـ ہ الیہ: کو الٹانا، پلٹ دینا ـ اَحَالَ الغریمَ بِدَیْنِہ علی آخر: قرض دوسرے پر اتارنا، قرض دوسرے کے حوالے کرنا ـ قرض دار کو قرض سمیت دوسرے کے پاس بھیجنا ـ صفت فاعلی: مُحِیل، قرض دار مُحَال اور دوسرا قرض دار محال علیہ اور مال: مُحَال بہ اور دوسرا قرض دار محال علیہ اور [illegible] مُحَال بِہ [illegible] المحَال [illegible] علی

فلان: کسی معاملہ کو کسی پر موقوف رکھنا ـ تَحَوَّلَ الرجلُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ـ ـ عنہ: سے پھر کر کسی دوسرے کے پاس جانا ـ اِحْتَالَ احتیالاً بالدین: قرض کو دوسرے کے ذمہ ڈالنا ـ اِسْتَحَالَ اِسْتِحالَةً: ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ـ ـ ت القوسُ: کمان کا ٹیڑھا ہو جانا ـ الحائل جمع حُوْل و حُوَّل و حِيَال و حَوَائِل: بدلے ہوئے رنگ والا ـ الحَال جمع أَحْوَال و أَحْوِلَة (مذکر و مونث): صفت کیفیت، ہیئت ـ حَالَةُ الشيء: کی صفت، کیفیت، ہیئت، حالاتُ الدھرِ: زمانہ کے انقلابات، زمانہ کی گردشیں ـ الحِوَل: زوال، انتقال ـ کہا جاتا ہے: لاحِوَلَ عنہ: اس سے بچنا محال ہے ـ الحَوَال و الحَوَلان و الحُولان: تغیر، انقلاب ـ الحُوْلَة: تعجب ـ کہا جاتا ہے: ھذا من حُوْلَةِ الدھر: یہ زمانہ کے عجائبات میں سے ہے ـ الحَوَالَة (ت): ہنڈی، پرونوٹ چیک، ڈرافٹ ـ المُحَال: ٹیڑھا ـ المَحَالَة جمع مَحَال و مَحَاوِل: رہٹ ـ المُسْتَحَالَة من القسی: ٹیڑھی کمان ـ

۲ ـ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً الحَولُ: سال گزرنا، سال پورا ہونا (کہا جاتا ہے: حالت الدارُ وحِیلَ بھا: گھر پر بہت سے سال گزر گئے) ـ ـ علیہ الحَوْلُ: پر سال گزر جانا ـ ـ ت النخلةُ (ز): کھجور کے درخت کا ایک سال بارآور ہونا اور ایک سال بارآور نہ ہونا ـ ـ حُؤُولاً و حِيَالاً ت الأنثی: مادہ کا حاملہ نہ ہونا ـ حَوَّلَ الارض (ز): کسی زمین پر ایک سال کاشت کرنا اور ایک سال زمین پر کاشت نہ کرنا ـ اَحَالَ اللّٰهُ الحَوْلَ: اللہ تعالیٰ کا سال کو پورا کرنا ـ بالمکان: کسی جگہ ایک سال قیام کرنا ـ ـ الشيءُ: چیز پر کئی سال گزرنا ـ اَحْوَلَ الصبیُّ: بچہ کا ایک سال کا ہو جانا ـ اِحْتَالَ اِحْتِيَالاً الشيءُ: پر ایک سال ہونا ـ الحَوْل جمع حُؤُول و اَحْوَال: سال ـ الحَوْلِيّ جمع حَوَالِيّ: ایک سال کا بچہ ـ اسی سے ہے: حَوْلِيَاتُ زھیر: وہ قصائد جن کے نظم کرنے، ترتیب دینے اور درست کرنے میں ایک سال کا عرصہ لگتا تھا ـ الحائل جمع حُوْل و حُوَّل و حِيَال و حَوَائِل: ایک سال کی عمر کا، بانجھ ـ کہا جاتا ہے: امرأة حائِل و نخلة حائِل: بانجھ عورت، بانجھ کھجور کا درخت ـ الحائلة: حائل کا مونث ـ المُحْوِل: ایک سال کا بچہ ـ المُسْتَحَالَة من الأرض: ایک سال یا کئی سال تک چھوڑی ہوئی زمین، کاشت نہ کی گئی زمین ـ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۳۔ حَالَ حِيلَةً و مَحَالاً: حیلہ کرنا۔ حَاوَلَ مُحَاوَلَةً و حِــوَالاً هُ: سے کوئی چیز حیلہ سے طلب کرنا۔ ۔ الشيءَ: کا ارادہ کرنا اور حیلہ سے طلب کرنا۔ تَحَوَّلَ فی الامر: حیلہ وتدبیر سے کام شروع کرنا۔ اِحْتَالَ اِحْتِيالاً: حیلہ سے کام لینا۔ الحَوْل جمع حُؤُول و اَحْوال: مہارت، دور بینی۔ الــحِـوَل: تصرف پر قدرت، مہارت، ہوشیاری، دور بینی۔ الــحِيْـلَة و الـحَوْلَة جمع حِيَل: تصرف پر قدرت، مہارت، ہوشیاری، دور بینی۔ الـحَـوَالِــيّ و الــحُـوَّل و الــحُـوَّلِـى: حیلہ باز بہت حیلہ گر، تبدیلی امور سے آگاہ۔ اَحْـــــوَل: زیادہ حیلہ باز (کہا جاتا ہے: هو احولُ منك و اَحْيَلُ مِنك: وہ تجھ سے زیادہ حیلہ باز ہے) زیادہ فریبی، زیادہ عیار کہا جاتا ہے۔ مــا اَحْوَلَــهُ و مــا اَحْيَلَــهُ: وہ کتنا فریبی اور عیار ہے۔ الحُوْلَة: بہت فریبی، بہت عیار۔ (کہا جاتا ہے، هذا رجــلٌ حُــوْلَة: یہ زبردست فریبی، زبردست عیار ہے)، ہوشیار آدمی ہے۔ الــحَــوِل: بڑا حیلہ ساز۔ الحائلة: حیلہ کہا جاتا ہے۔ مافيه حائلة: اس میں کوئی حیلہ نہیں۔ المَحَالَة جمع مَحَال و مَحَاوِل: ہوشیاری، مہارت تصرف کی قدرت۔ کہا جاتا ہے: لامحــالة من الامر: ضروری امر یا شک وشبہ سے پاک امر۔

۴۔ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً فی ظهر الدابة: جانور کی پیٹھ پر کود کر بیٹھنا۔ کہا جاتا ہے۔ اَحَـــال عــلــيــه بالسوط يضربه: وہ کوڑے مارنے کے لئے اس کی طرف سمٹا۔ اِحْــوَالَّ تِ الارضُ: زمین کا سرسبز اور ہری بھری ہونا۔ حالُ متنِ الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کا وسطی حصہ۔ الـمَحَالة جمع مَـحَال و مَحَاوِل: پیٹھ کا درمیان، ریڑھ۔

۵۔ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً الشخصُ: متحرک ہونا۔ حَاوَلَ مُحَاوَلَةً و حِوَالاً البصر: گھور کر دیکھنا۔ اِحْتَوَلَ هُ القومُ: لوگوں کا کسی کو گھیر لینا۔ اِسْتَحال اِسْتِحَالَةً فلانٌ الشيءَ: کسی طرف دیکھ کر پتہ لگانا کہ وہ حرکت کرتی ہے یا نہیں۔ عِلْمُ الحِيل (حی): قوت وحرکت مشینری کا علم، مکینکس Mechanics۔

۶۔ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً و حَيْلُولَةً بينهما: کے درمیان حائل ہونا صفت: حـــائـل جـمـع حُوْل و حُوَّل و حِيَـــال و حَـوَائِل، الحِوَال: دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز۔

۷۔ حَوِلَ ـَ حَوَلاً تِ عينهُ: بھینگی آنکھ والا ہونا صفت: اَحْوَل مؤنث: حَوْلاء جمع حُوْل اَحَالَ العينَ: آنکھ کو بھینگی کرنا۔ اِحْوَلَّ ت عينه: کی آنکھ بھینگی ہونا۔ الحَوَل (طب): بھینگا پن۔ الحَوِل: بھینگا۔

۸۔ حَوَّل الشيءَ: کو محال بنانا۔ اَحَــالَ الــرجلُ: محال بات کہنا۔ محال کام کرنا۔ اِسْتَحَـالَ اِسْتِحَالَةً: محال ہونا، ناممکن ہونا۔ الـــمُـــحَـــال: محال، غیر ممکن۔ المِحْوَال: بہت محال باتیں کہنے والا۔ المُسْتَحِيل من الكَلام: محال، لغو و باطل کلام۔

۹۔ الــحَــال جـمـع احْوَال و اَحْوِلة: گرم راکھ سیاہ مٹی۔ حَـوْل و حَوْلَى و حوال و حَوَالى الشيءِ او الــشــخــص: چیز یا شخص کا ارد گرد، کہا جاتا ہے: قَعَد حَوْلَهُ و حَوْلَيهِ و حَوَالَهُ و حَوَالَيهِ: وہ اس کے ارد گرد بیٹھا۔ حِيـــالُ الــشــيءِ: چیز کے سامنے یا مقابل۔ کہا جاتا ہے: قَعَدَ حِيالَهُ و بِحِيَالِه: وہ اس کے سامنے یا مقابل بیٹھا۔ اعــطــى كُلّاً عــلــى حِيــاله: اس نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دیا۔ الحُوْلَة: امر منکر۔ الــمُــحَــال: سراسر فساد کی بات، باطل، المُحِيل من النساء: لڑکی کے بعد لڑکا یا لڑکے کے بعد لڑکی جننے والی عورت۔ الــمُــسْــتَحِــيـل: لغو و باطل کلام، بھرا ہوا۔

۱۰۔ الحَوْلَقَة: حوقلہ کی طرح۔ ''لاحول ولا قوة الا بالله: اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ حرکت ہے نہ قوت'' کہنا۔

ب حَـــالَ ـُ حَـوْلاً و حَيَلاً: بدلنا، تبدیل ہونا، کایا پلٹنا، قلب ماہیت ہونا۔ ـ الى / ه: میں منتقل ہونا تبدیل ہونا، بڑھ کر کچھ ہو جانا، بدل کر کچھ ہو جانا، الی: کچھ ہو جانا، ـعن: سے ہٹنا، تجاوز کرنا منحرف ہونا، بچنا، بچ نکلنا، کو ٹال جانا، کا سامنا کرنے میں ناکام ہونا۔ ـ: (وقت کا) گزرنا۔ ـحَيْلُولَةً دون: کو نہ ہونے دینا۔ ـبيـــن: کے درمیان میں آنا، کے درمیان آنا، حائل ہونا۔ حَالَ عن عَهْدٍ: کسی معاہدہ سے پیچھے ہٹنا حَال بيــن فــلان و بين الامر: کسی بات کو کسی کے لئے ناقابل رسائی بنانا، ناممکن بنانا، تک کسی کا راستہ روکنا، کو سے روکنا، کو کوئی چیز نہ دینا۔ حَـال بيـن نفــسه و بين الاشفاق: رحم، ترس سے متاثر نہ ہونا، اپنے آپ کو کسی ہمدردی سے روکنا۔ حَوَّلَ ه الى / ه ه: کو میں تبدیل کرنا، ـه: کو منتقل کرنا، دوسری جگہ لگانا، تبدیل کرنا (حسابی طور پر)، بجلی کا بٹن دبانا، برقی رو بدلنا، ـه الى (روپیہ وغیرہ) کو ڈاک کے ذریعے کسی کو بھیجنا، کو تک پہنچانا، کی چیز کو کسی کو دینا۔ ـه: ریل کے ڈبہ کو ایک لائن سے دوسری لائن پر لیجانا، شفٹ کرانا، لائن بدلنا۔ ـه الى: کسی چیز کو کسی کو بھیجنا یا اس کے پتہ پر ارسال کرنا ـه: ہنڈی، پرونوٹ کی نشست پر دستخط کرنا۔ ه الى: کو کی طرف موڑنا، کا کی طرف رخ کرنا۔ ـنظرةً: کی طرف اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا۔ ـه/ه عن: کو سے موڑنا، پھیرنا، کا سے خیال ہٹانا، کی توجہ سے ہٹانا، کو سے روکنا۔ ـ بصرهَ عن: کو اپنی آنکھوں سے ہٹانا، پھیرنا، ـه: برقی رو بند کرنا۔ حَوَّلَ الدَّفَّةَ: پتوار، کشتی یا جہاز کا پہیہ موڑنا، راستہ بدلنا۔ حَاوَلَ ه و أن کو آزمانا، آزما کر دیکھنا، کی کوشش کرنا، کو کرنے کوشش کرنا۔ ـان: کو کرنے کی کوشش کرنا۔ ـه: کو چالاکی سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ـ: حیلوں بہانوں سے دھوکا دینا، معذرتیں کرنا، ذمہ داری سے بچنا، پہلو بچانا، دغا کرنا، فریب کرنا ٹال مٹول کرنا، ٹالنا۔ اَحَالَ ه ه/ه الى کو سے بدلنا، کو ایک حالت سے دوسری میں بدلنا، کو میں تبدیل کرنا، کو عمل میں لانا۔ ـه: کو منتقل کرنا۔ ـه اِلــى/ عــلــى: کو کے پاس بھیجنا، ارسال کرنا، کو کے سپرد کرنا۔ ـه/ه عــلــى: کو کے حوالے کرنا۔ ـه على: کو اوپر یا آگے کسی کے پاس بھیجنا۔ ـه الى: کو کے سپرد کرنا، کے پاس بھیجنا، ـه على: (فرض) کسی کو منتقل کرنا، تفویض کرنا، سونپنا۔ اُحِيـــل عــلــى (الى) المعاش و اُحِيل الى التقاعد: پنشن پر چلا جانا۔ تَـحَـوَّلَ: تبدیل ہونا بدلنا۔ ـالى: میں بدل جانا، تبدیل ہو جانا، کچھ ہو جانا، بن جانا۔ عـــن/مـــن الِـى: سے کی حالت میں تبدیل ہو جانا، ـ من الى: سے میں تبدیل ہونا، سے بڑھ کر کچھ ہو جانا، سے نشوونما پا کر میں ارتقا پذیر ہونا۔ ـ: پیچھے ہٹنا، دور ہونا، ترک کر دینا۔ ـ الِــى: رہائش گاہ میں منتقل ہو جانا۔ ـ: سے ہٹ جانا کو چھوڑ بھاگنا سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، ہٹنا۔ عن الـطـريق: راستہ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، ہٹ جانا، راستہ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، ہٹ جانا، راستہ بھٹک جانا، ـ عن: کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا، کو ترک کرنا، سے دستکش ہونا، کی ذمہ داری سے انکار کرنا، سے بے تعلقی یا لاعلمی ظاہر کرنا۔ ـ: عیاری مکاری کرنا۔ تَحَوَّلَ كلَّ حِلِيةٍ: ہر سمجھنے والے فریب سے کام لینا، تَحَيَّلَ: فریب کاری کرنا۔ الــى: کے مقصد کے لئے یا کے حصول کے طریقے اور ذریعے بغور سوچنا، تــحَــاوَلَ عــلــى: کچھ کرنے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، سخت جدوجہد کرنا۔ تــحــايل و

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اِحْتَالَ علی: کے خلاف عیارانہ ذرائع استعمال کرنا، فریب اور مکر سے کام لینا، داؤں اور چالیں استعمال کرنا، کو دھوکا دینا، فریب دینا۔ ہ/ہ علی: کو کے حوالے کرنا۔ ہ علی: کو اوپر یا آگے کسی کے پاس بھیجنا۔ ہ علی (قرض) کسی کو منتقل کرنا، تفویض کرنا، سونپنا۔ تَحَوَّلَ: تبدیل ہونا بدلنا۔ ۔الی: میں بدل جانا، تبدیل ہوجانا۔ ۔عن/من الی: سے کی حالت میں تبدیل ہوجانا۔ ۔من الی: سے میں تبدیل ہونا، سے بڑھ کر کچھ ہوجانا، سے نشونما پاکر میں ارتقا پذیر ہونا۔ ۔: پیچھے ہٹنا، دور ہونا، ترک کردینا۔ ۔ الی: رہائش گاہ میں منتقل ہوجانا۔ ۔ سے ہٹ جانا، کو چھوڑ بھاگنا، سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، ناخ ہٹنا۔ ۔ عن الطریق: راستہ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، ہٹ جانا، راستہ بھٹک جانا۔ ۔عن: کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا، کو ترک کرنا، سے دستکش ہونا، کی ذمہ داری سے انکار کرنا، سے بے تعلقی یا لاعلمی ظاہر کرنا۔ -: عیاری مکاری کرنا۔ الی: کے مقاصد کے لئے یا کے حصول کے لئے طریقے اور ذریعے بغور سوچنا۔ تَحَاوَلَ علی: کو کچھ کرنے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، سخت جدوجہد کرنا۔ تَحَایَل و اِحْتَالَ علی: کے خلاف عیارانہ ذرائع استعمال کرنا، فریب اور مکر سے کام لینا، داؤں اور چالیں استعمال کرنا، فریب اور مکر سے کام لینا، داؤں اور چالیں استعمال کرنا، کو دھوکھا دینا، فریب دینا، جل دینا، ٹھگ لینا، سے زیادہ چالاک نکلنا، سے زیادہ چالاک ہونے کی وجہ سے فائدے حاصل کرنا، فریب سے کچھ حاصل کرنے یا کرنے کی کوشش میں لگا رہنا۔ اِحْتَالَ: (اپنے وسائل پہ) کام کرنا یا کوشش کرنا، اپنے طور پر کوششیں کرنا۔ اِحْوَلَّ: بھینگا ہونا۔ اِسْتَحَالَ اِلی: میں تبدیل ہونا، بدلنا جانا۔ ۔الی: نئی یا مختلف چیز میں بدل جانا۔ ۔ الی: نئی یا مختلف چیز میں بدل جانا۔ ۔ علی: کے لئے ناممکن ہونا، لغو ہونا، ناقابل یقین ہونا لچر ہونا، بے سرو پا ہونا بعید از قیاس ہونا، بے تکا ہونا، مضحکہ خیز ہونا حال (مذکر و مونث) جمع اَحْوَال: حالت، صورت حال، وضع، مقام، درجہ، حیثیت، صورت، حال، حالات، واقعہ، حقیقت، امر واقع، واقعیت، حال (مستقبل کے مقابلہ میں) حال (واقعاتی یا تفصیلی اظہار یا جزو جملہ (گرامر) (جمع): حالات، معاملات، واقعات، حَالَ: کے دوران، کے فوراً بعد، کی صورت میں، حَالاً: فوراً، ابھی تھوڑی دیر میں بلا تاخیر، اب، اس وقت، دراصل، درحقیقت، فی الواقع فی الحال اور للحال: فوراً، فی الفور، وہیں، اسی وقت، اس دم۔ عَلَی کُلِّ حالٍ اور عَلَی ایِّ حالٍ بہر کیف، بر صورت، بہر حال، بہر صورت یَبْقَی عَلَی حالِہٖ: یہ غیر متبدل رہتا ہے، جیسا کہ ہے فی حال من الاَحْوَال: ایک یا دوسری صورت میں، کسی نہ کسی طرح، اگر موقع ہو، کسی طرح، (حرف نفی کے بعد) کسی صورت بھی نہیں، ہرگز نہیں، کسی طرح سے بھی نہیں، قطعاً نہیں، کسی بات میں بھی نہیں۔ بِاَیِّ حال، بِحال، علی حال: (نفی کے بعد) کسی صورت بھی نہیں، ہرگز نہیں، کسی طرح سے بھی نہیں، قطعاً نہیں کسی بات میں بھی نہیں۔ کَذٰلِکَ الحالُ فی: یہی حال کا بھی ہے۔ کَمَا هُوَ الحالُ فی ...... جیسا کہ کا حال ہے۔ کَیْفَ حالُكَ: تمہارا کیا حال ہے؟ تم کیسے ہو؟ شیء بِحالہ: کوئی چیز بذاتہ، بنفسہ، بجائے خود، ایک علیحدہ الگ، جدا یا مستقل چیز۔ الاَحْوَالُ الجَوِّیَة: موسمی حالات۔ محاکم الاحوال الشخصیة: زندگی پر اثر انداز ہونے والے اعداد و شمار کے متعلق عدالتیں، قانون (نظام) الاحوال الشخصیة: شخصی قانون صاحِبُ الحال: ذوالحال (گرامر کی اصطلاح)۔ عَرْضُ حال: درخواست، محضر، محضر نامہ حَالَمَا: جونہی، جوں ہی کہ، جیسے ہی حَالَة جمع حَالَات: حالت، صورت حال (ممکن، حقیقی) صورت، واقعہ، حَالَةَ: کے دوران، حالةَ ان: حالانکہ، ہرگاہ۔ والحالةُ هذه: ان حالات میں، ایسی صورت میں، جیسا کہ معاملات ہیں۔ فی حالةِ: کی صورت میں، فی حالةِ غِیابِہٖ: اس کی غیر حاضری کی صورت میں۔ فی حالةِ الوفاة: موت کی صورت میں۔ فی هذه الحالة: اس صورت میں۔ لِحالةِ أن: کی صورت میں فی حالة ما اذا: اگر۔ کما هی الحالة فی: کی صورت میں۔ حالة اجتماعیة: ازدواجی یا متاہل زادگی کی حیثیت۔ الحالات الجَوِّیّة: موسمی حالات۔ حالة الخطر: ہنگامی صورت میں موجود شخص یا چیز، خطرہ کی صورت۔ الحالة الراهنة: حالت موجودہ موجودہ حالت۔ حالةُ الطوارئ: ہنگامی صورت۔ فی حالة التلبس: ارتکاب جرم کرتے ہوئے۔ الحالة المدنیة: شہری حیثیت، قانونی حیثیت، قانونی [illegible] سوء الحالة [illegible]

صورت براحال، بری حالت۔ حَالی: موجودہ، تازہ حالیہ، حقیقی، عارضی، ناپائیدار، فوری۔ حَالِیًّا: اس وقت، دراصل، فی الواقع، درحقیقت، صورة حالیة: سرسری تصویر، سرسری فوٹو۔ حَالِیہ: حقیقت، واقعیت، امر واقع۔ موجودہ وقت کی دلچسپی، بروقتی۔ حَوْل جمع اَحْوَال: قوت، طاقت۔ لاحول له ولا حیلة: وہ مکمل طور پر بے بس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ حَوْلَ: تغیر، تبدیلی جگہ کی تبدیلی۔ لایبتغون عنه حِوَلاً: وہ اسے اور طرح نہیں چاہتے، وہ اسی کو مانگتے ہیں۔ حَوْلَ: کے بارے میں، کے گرد، کے گرداگرد، کے چاروں طرف، کے قریب، لگ بھگ، کوئی، تقریباً، (تعداد، مقدار کے بعد آتا ہے)۔ م حوله: کے ارد گرد، کے قریب، من حَوْلَیْهِما: ان دو کے اردگرد، قریب ان کے گرد و نواح سے، ان کے گرد و پیش سے۔ حَوْلِی: عارضی، عبوری، مؤقت، ایک سال عمر کا (جانور) یکسالہ، نوجوان جانور، برہ، بھیڑ کا بچہ۔ حَوْلِیَات: وقائع، تاریخ، سالنامہ۔ حَیْل: طاقت، قوت، کس بل، دم خم، جان۔ علی حَیْلِہٖ: سیدھا (کھڑا ہوا) لاقوة ولاحَیْلَ: مکمل طور پہ بے بس، مفلوج۔ حِیْلَة جمع حِیَل: تدبیر، ترکیب، استادی، ہنر، حیلہ، چالبازی، چال، داؤں، حیلہ، بہانہ، ٹالنے کی ترکیب، فریب، مکر، دھوکا، منصوبہ، تجویز، ٹال مٹول، گول مول بات / حکمت عملی، مصلحت، مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ، عارضی بندوبست، داؤ پیچ، بچنے کا طریق عمل، قانونی چال۔ ماالحیلة؟ کیا کیا جائے۔ لاحیلة لی فی: میرا ایسا کرنے کا کوئی امکان نہیں، میں ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ مابیدی حیلة: میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ لم یجد حیلةً إلّا: وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکا، اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اَعْیَتْهُ الحیلةُ: اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، کہے وغیرہ، بدحواس ہوجانا۔ حِیَلِیّ: فریبی، چالباز، عیار، مکار، چلتا پرزہ، کائیاں، چالاک، حیلہ باز، روباہ صفت۔ اَحْیَل: زیادہ فریبی، زیادہ عیار، زیادہ مکار، زیادہ چالباز۔ حَوَل: بھینگا پن۔ اَحْوَل مونث حَوْلاء جمع حُوْل: بھینگا۔ حُؤُول: تبدیلی، کایا پلٹ، قلب ماہیت، استحالہ، ۔ دونَ: کی احتیاطی تدبیر۔ حِوَل: ملک رکاوٹ، پردہ، اوٹ، آڑ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حِیَالَ: کے پیش نظر، کے بارے میں، جہاں تک اسکا تعلق ہے، کے سامنے، کے بالمقابل، حَوَالَة جمع حَوَالات: تفویض، حقوق حوالے کرنا، سپرد کیا ہوا حق، ہنڈی، پرونوٹ، چیک، ڈرافٹ، حوالة البرید، حوالة بریدیة منی آرڈر، حوالة سَفَر: مسافر یا سیاح کا چیک۔ (traveler's check) حَوَالَی: کے اردگرد، قریب، لگ بھگ، تقریباً، کچھ (تعداد، مقدار کے بعد) حَیلُولَة: جدائی، علیحدگی فراق، مداخلت، خلل اندازی، خلل، رکاوٹ، انتشار، —دونَ: کی احتیاط، احتیاطی تدبیر۔ لامَحالَ و لا مَحَالة: انتہائی طور پر یقیناً، وثوق سے، مطلقاً، واقعی۔ لامحالَة منه یہ اٹل ہے، ناگزیر ہے، ہوکر رہنے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ تَحْوِیل الی میں تبدیلی، تبدیلی، تغیر وتبدل، ترمیم، منتقلی، ادل بدل، الٹ پلٹ، منسوخی، استرداد، تقدیم، تاخیر، بگاڑ، قائم مقامی، برطرفی معزولی، بے دخلی، منتقلی، تفویض، سپردگی، انتقال نامہ، (کرنسی وغیرہ کی) تبدیلی، تغیر، تبادلہ حصص، (برقی رو کی) تبدیلی، انتقال (مالیات)۔ تحویل الدَین: ترسیل زر، کسی اور جگہ بھیجا جانے والا روپیہ، منتقلی زر، بھیجنا، ارسال کرنا، ہنڈی پرونوٹ، ڈرافٹ (تجارت) چیک، تصدیق ظہری، پشت پر فروخت کی تحریر، فرد حساب یا چیک کی پشت کی تحریر سامان کی وصولی پر اس کی قیمت کی ادائیگی کا نظام (cash on delivery)۔ قابلیة العُمْلَة للتحویل الی العملات الاجنیة: کرنسی کی تبدیلی کی صلاحیت۔ تَحْوِیلة جمع تَحَاوِیل: شاخ، چھوٹی شاخ، بغلی پٹری، سائڈنگ، بغلی نہر قینچی (ریلوے کا کانٹے بدلنے کی)۔ محَاوَلَة جمع مُحَاوَلات: کوشش، جدوجہد، مصلحتوں سے رجوع، حکمت عملی، نئی ترکیب، ٹال مٹول، گول مول بات یا داؤ داؤ پیچ، چالیں، گول مول جواب دینا، حیلے بہانے کرنا۔ مُحَاوَلَةٌ عَلَی حیاتِهِ: کو قتل کرنے کی کوشش، پر قاتلانہ حملہ۔ اِحَالَة: منتقلی، تفویض، پہنچانا، لیجانا، انتقال، ترسیل، ترسیل زر۔ الی/علی: کی طرف بھیجنا، کے حوالے کرنا سپرد کرنا، روانہ کرنا، پہنچانا، ارسال کرنا۔ ارسال، ترسیل، منتقلی (تجارت)، تفویض، حوالگی سپردگی، بیہودگی، لغویت۔ بالِاحالة عَلی: کے متعلق، قاضی الاحالة: سماعت کرنے والا مجسٹریٹ۔ احالة الی (علی) المعاش اور

احالة الی التقاعد: پنشن پر بھیجنا۔ تَحَوُّل: تبدیلی، تبدیلیِ صورت یا ہیئت، ایک قسم کی مقدار کی دوسری رقم میں تبدیلی، ٹھوس چیز کا سیال اور سیال کا گیس بن جانا۔ قلب ماہیت، انقلاب، ایک چیز کا دوسری میں تبدیل ہو جانا، اچانک تبدیلی، ناگہاں موڑ، الٹ پلٹ، تغیر۔ — عن: سے انحراف، تجاوز، دستبرداری نقطۃ التحول: نقطہ، عروج، نقطہ تغیر، نقطہ، انقلاب، مڑنے کی جگہ۔ تَحَیُّل: چالوں کا استعمال، دھوکا، فریب، دغا۔ تَحَایُل و اِحتِیال: چالوں کا استعمال، دھوکا، فریب، دغا، حکمت، عیاری، ہوشیاری، چالاکی، مکاری، استادی، کینہ، بغض، عناد، دغا بازی، بے وفائی، غداری، فریب دہی، جل، دھوکا بازی۔ تَحَایُلِیّ واحتیالی: مکار، فریبی، دغاباز دھوکے کا، فریب کا۔ اِفلاس احتیالی: دھوکے کا دیوالیہ پن، دیوالہ۔ اِستَحَالَة: تبدیلی، تبدیلیِ صورت یا ماہیت، قلب ماہیت، انقلاب، موڑ، عبور، گزر تغیر، عشائے ربانی میں روٹی اور شراب کا گوشت اور خون بن جانا (مسیحیت میں)، عدم امکان امرِ محال، ناممکن ہونا، بعید از فہم وادراک ہونا، لغویت، بیہودگی، نامعقولیت، خلاف فطرتی۔ حائِل جمع حَوَائِل دون: کے راستہ میں رکاوٹ۔ —: آڑ، ناکہ، پردہ، تہ ہونے والا پردہ جمع حُوَّل: غیر مستقل، بےثبات، تغیر پذیر، بدل دینے کے قابل، بدلنے والا، گھٹنے بڑھنے والا، اکثر بدلتا رہنے والا، کمزور، ناتوان، سست کاہل، زرد رو، بےنور، پھیکا، بےرونق، ماند پڑا ہوا۔ مُحَوِّل جمع مُحَوِّلات: ٹرانسفارمر (بجلی کا)، تصدیق کنندہ مُحَوَّل علیه: مال کی وصولی پہ ادائیگی۔ (Cash on delivery)۔ مُحَوَّل به: جو مال کی وصولی پر لیا گیا ہو۔ مُحِیل: منتقل کرنے والا، تفویض کنندہ۔ مُحَال: ناقابل یقین، ناقابل تصور، بعید از قیاس، ناممکن، محال، لغو، بیہودہ، ناقابل حصول۔ مُتَحَوِّل: قابل تبدیل، تبدیل ہونے والا تغیر پذیر، متلون۔ الاعیاد المتحولة: متحرک جشن۔ مُحْتَال: ہوشیار، چالاک، عیار، چلتا پرزہ، فریبی، مکار، حیلہ گر، دغا باز، دھوکے باز جعلساز، ٹھگ، چالباز، پاکھنڈی، بہروپیا، بدمعاش، لچا، شہدا، غنڈہ، بدذات، منتظم، کارکن، مختار۔ مُحتَال علیه: تفویض کردہ دعوی کا قرضدار، جس کے نام ملکیت منتقل کی جائے۔ مُستَحِیل: ناممکن، لغو، بیہودہ، نامعقول،

خلاف فطرت۔ مُستَحِیلات: ناممکن چیزیں، باتیں، عدم امکانات، بیہودگیاں، لغویات، خرافات۔

حام: ا۔ حَامَ ـُ حَوْمًا و حَوَمَانًا علی الشیءِ و حولَهُ: کے اردگرد پھرنا۔ حولَ غَرَضِهِ و علیه: اپنی غرض طلب کرنا۔ حَوَّمَ فی الامر: کام میں لگا رہنا۔ الحُوم: سر کو چکرانے والی شراب۔ حَوْمَة جمع حومات القتال: جنگ کا شدید مقام — البحرِ اد الرمل وغیر ذلك: سمندر یا ریت وغیرہ کا بڑا حصہ۔ الموتِ: موت کا حملہ۔

۲۔ حَامَ ـُ حَوْماً و حَوَمَاناً الرجلُ: پیاسا ہونا صفت: حائِم جمع حُوَّم مونث حائِمة جمع حَوائِم و حُوَّم۔

۳۔ حَوْمَلَ حَوْمَلَةً: پانی اٹھانا۔ الحَوْمَل: سیاہ بادل، صاف سیلاب۔

حَامَ ـُ حَوْمًا و حَوَامانًا: ہوا میں چکر کاٹنا، منڈلانا منڈلاتے رہنا، پرواز کرنا (پرندے یا ہوائی جہاز کا)۔ حول و علی: کے گرد منڈلانا، اڑنا، کے سر پر سوار رہنا، حَامَتِ الشُبهَةُ ضِدَّه: شبہ اس پر پڑا، وہ مشتبہ ہو گیا۔ حَوَّمَ: ہوا میں چکر کاٹنا، چکروں میں منڈلانا، پھرنا، گھومنا گردش میں آنا، (کے سر یا دماغ میں خیالات اور تصویروں کا) چکر کھانا، گھومنا۔ — فی: (کتاب میں) ادھر ادھر سے پڑھنا، (کتاب) کے متفرق حصے پڑھنا۔ حَوْمَة جمع حَوْمات: لڑائی کا ہنگامہ، غل غپاڑے کا سب سے زیادہ ہنگامے والا حصہ، بڑا حصہ، جسم کا اصل حصہ، بیشتر حصہ، (نہر کا) ایک حصہ، محلّہ۔

حون: تَحَوَّن الرجلُ: ذلیل ہونا، ہلاک ہونا۔

حوی: حَوِیَ ـَ حَوًی و اِحْوَوَی اِحْوِواءً و اِحْوَاوَی اِحْوِیْوَاءً: سبزی مائل سیاہ یا سیاہی مائل سرخ ہونا صفت: اَحْوَی مونث حَوَّاء جمع حُوّ۔ الحُوَّة: سبزی مائل سیاہی یا سیاہی مائل سرخی۔

حَوَی: ا۔ حَوَی ـِ حَوَایَةً و حَیًّا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ حَوَّی تَحْوِیَةً ہ: پر قبضہ کرنا۔ تَحَوَّی لِشیءَ: پر قبضہ کرنا۔ اِحْتَوَی اِحْتِوَاءً الشیءَ و علیه: کو جمع کرنا۔ الحَاوِی مونث حَاوِیَة جمع حَاوِیَات و حَوَاوٍ (فا)۔ الحَوِیّ: استحقاق کے بعد مالک ہونے والا۔ الحَوِیَّة جمع حَوَایَا: الحَوِیّ کا مونث۔

۲۔ حَوَی ـِ حَوَایَةً و حَیًّا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ تَحَوَّی: سکڑنا، گول ہونا۔ الحَوِیّ: چھوٹا تالاب، حوض۔ الحَوِیَّة جمع حَوَایا: انتڑی، چھوٹا حوض۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گھاس بھوسہ بھری ہوئی گدی جو اونٹوں کے کوہان کے اردگرد ڈالتے ہیں۔ اس سے یہ مثل مشہور ہے: المنایا علی الحَوَایا: یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو خود اپنی موت کی کوشش کرے۔ الحِوَاء جمع اَحْوِیَة: پاس پاس واقع گھروں کا مجموعہ۔ الحَوَاء و الحَوَاة: آواز۔ الحاوِیاء جمع حَاوِیانات و حَوَاوٍ: انتڑی۔

۳۔ تَحَوَّی تِ الحیَّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ الحَاوِی مونث حاویة جمع حاویات و حَوَاوٍ: سانپ پر منتر پڑھنے والا۔ الحَـوَّاء: سانپوں کو جمع کرنے والا۔

○ حَوَی ـِ حَوَایةً و حَیّاً ہ: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، متحد کرنا، کو محصور کر لینا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو آغوش لینا، گلے لگانا، پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا، کا مالک ہونا، کو رکھنا، پر قابض ہونا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا۔ تَحَوَّی: کنڈلی مار کر بیٹھنا، جُرمُر ہو جانا، چڑمرانا، سمٹ سمٹا کر بیٹھنا۔ احتوی ہ/علی: کے گرد حلقہ ڈالنا، کو گلے لگانا، پر مشتمل ہونا، کو رکھنا، ملفوف کرنا، پر قابض ہونا، کا مالک ہونا۔ حَوِیَّة: بل کھاتے ہوئے ہونا، مفتول ہونا کنڈلی، کنڈل، بل، پیچ، کھونگھ، برقی تار کا لچھا، خم، حلقہ دار بال، گھنگھر یا چھلا۔ جمع حَوَایا: انتڑیاں، آنتیں، احشاء کسی شئے کے اندرونی حصے۔ حَوَایَة جمع حَوَایات: گول گدی جو سر یا پیٹھ پر بوجھ کو سہارا دیتی ہے۔ حاوٍ جمع حُوَاة: سپیرا، مداری، شعبدہ باز، جادوگر، مُحْتَوِیات: مشمولات، مُحْتَوِیَاتُ النفوس: باطنی، پوشیدہ خیالات، دل کے راز۔

حیثُ: ظرف مکان مبنی بر ضمہ بمعنی: کہاں کجا، چونکہ: کہا جاتا ہے: مِن هذه الحَیثیة: اس وجہ سے، اس اعتبار سے حیث: زمانہ کے لئے بھی آتا ہے۔

○ حیث: جہاں (جگہ اور سمت)، جس جگہ، جہاں کہیں، چونکہ، کیونکہ، حالانکہ۔ حیثُ: کیونکہ، چونکہ، حیثُ کانَ: جہاں کہیں بھی ہو، بہرصورت، بہرحال۔ الی حیثُ: جہاں (طرف) کہاں، اس جگہ جہاں۔ مِن حیثُ: جہاں سے، کہاں سے، جہاں، حالانکہ، ہرگاہ، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کے بارے میں، کے متعلق، کے پیش نظر، کی وجہ سے، کے باعث۔ مِن حیثُ الثقافة: تعلیم کے بارے میں، جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے۔ من حیثُ یدری و لایدری: وہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جان بوجھ کر یا بے علمی میں۔ من حیثُ لا: کو کرتے، کہتے (وغیرہ) بغیر من حیثُ هو: اسی حیثیت سے، بذاتہ، بنفسہ، بجائے خود۔ العالَم من حیثُ هو: دنیا بجائے خود دنیا اسی حیثیت سے۔ من حیثُ ان: چونکہ، اس حقیقت کے پیش نظر کہ، تاکہ، جیسا کہ کانت من البرائة بحیثیت لاتری: وہ اتنی بھولی یا معصوم تھی کہ دیکھ نہ سکی۔ بحیثُ لا: بشرطیکہ ......نہ..... بحیثُ ان: اس طرح کہ، تاکہ۔ حَیْثُما: جہاں بھی، کہیں بھی، جہاں کہیں، کہیں بھی حیثما اتفق: کہیں بھی، جہاں بھی یہ تھا یا ہو، اتفاقاً، اتفاق سے، یونہی، بے سوچے سمجھے۔ حیثیة جمع حیثیات: نقطہ نگاہ نقطہ نظر، زاویہ نگاہ، زاویہ نظر، رسائی، پہلو، احترام، لحاظ، مروت، پاس اونچی سماجی حیثیت، عظمت (جمع) قانونی وجوہات جن پر فیصلہ مبنی ہوتا ہے، رائے۔ ذوو الحیثیات (البارزة) یا اصحاب الحیثیات، اصحاب الحیثیة: اونچی سماجی حیثیت کے لوگ، ممتاز لوگ۔ من الحیثیة الحیوانیة: حیوانیاتی نقطہ نظر سے۔

الحِیثیُون: حتی لوگ (the hitties)۔

حیجاج: حَاجَ ـِ حَیجاً: محتاج ہونا۔ اَحَاجَ و أُحْیِجَ المکانُ: جگہ کا کانٹے اگانا۔ الحَاج (ن): کانٹے، یا ترش پودے۔

حاد: ۱۔ حَادَ ـِ حَیْداً و حَیَدَاناً و مَحِیْداً و حَیْدَةً و حُیُوداً و حَیْدُودَةً عن الطریق: راستے سے ہٹنا الگ ہونا۔ حَیَّدَهُ: کو ایک طرف کر دینا۔ ـ السیرَ: تسمہ میں گرہ لگانا، حَایَدَ مُحَایَدَةً و حِیاداً ہ: سے ایک جانب ہونا، علیحدہ ہونا۔ الحَیْد جمع حُیُود و حِیَد و اَحْیَاد: چیز کا اٹھا ہوا اور ابھرا ہوا حصہ۔ پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا کنارہ۔ ـ و الحَیْدَة: پہاڑی بکرے کے سینگ کی گرہ۔ المَحِید: راستہ سے الگ ہونے کی جگہ۔ الحَیدَی: متکبرانہ چال الحَیدان: وہ کنکر، پتھر جو جانور کے چلنے سے اڑتے ہیں۔

۲۔ الحَید و الحِیدُ: مثل، نظیر۔

○ حَادَ ـِ حَیْداً و حُیُوداً و حَیَداناً و مَحِیداً عن: سے منحرف ہونا، تجاوز کرنا، انحراف کرنا، باز رہنا، کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، چھوڑ بیٹھنا، حَادَبه عن: کو سے باز رہنے کو کہنا، کو سے دور کرنا۔ ـ الی/نحو: کی طرف مائل ہونا، کی طرف میلان ہونا، رخ ہونا، باہم مل جانا۔ حَیَّدَ ہ: کو ایک طرف رکھنا، حَایَدَ ہ/ہ: سے دور رہنا علیحدہ اور جدا رہنا، سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا، احتراز کرنا، گریز کرنا، حذر کرنا۔ [illegible] سے منحرف ہونا، انحراف [illegible]

حَید و حَیَدان: انحراف، تجاوز، ایک طرف ہونا، دور ہونا۔ حِیْدَة (راستے) سے ہٹنا، غیر جانبداری، عَلَی حَیدة: ایک طرف، ایک جانب، جدا، علیحدہ، الگ۔ مَحِیْد عن: سے احتراز، گریز، کنارہ کشی۔ لامحید عنه: یہ ناگزیر ہے۔ حِیاد: غیر جانبداری۔ علی الحِیاد: غیر جانبدار حیاد عن الخط: (گاڑی وغیرہ کا) پٹری سے اتر جانا۔ حِیادِی: غیر جانبدار۔ مُحَایَدَة: غیر جانبداری۔ حَائِد: غیر جانبدار۔ مُحَایِد: غیر جانبدار۔ المُحایِدُون: غیر جانبدار (لوگ وغیرہ)۔

○ حیدر آباد: حیدرآباد (ایک شہر کا نام)

حار: ۱۔ حَارَ ـَ حَیْراً و حَیَراً و حَیْرَةً و حَیَرَاناً الرجلُ: (کی) نظر کا چکاچوند ہونا، راستہ گم کر دینا۔ فی امرہ: اپنے معاملہ میں حیران ہونا، صفت: حیران مؤنث حَیْرَی جمع حَیَارَی و حُیَارَی۔ حَیَّرَهُ: کو حیرت میں ڈالنا۔ تَحَیَّرَ و اسْتَحارَ: حیرت میں پڑنا۔ الحائِر جمع حُوْران و حِیْران: (فا)۔ المُحْیار: بہت حیران المُسْتَحِیر: صحرا کے عرض میں راستہ جس سے نکلنے کی جگہ کا پتہ نہ لگے۔ المُتَحَیِّرات: واحد متحَیِّرة (فک): سیارے۔

۲۔ حَارَ ـَ حَیْراً و حَیَراً و حَیْرَةً و حَیَرَاناً الماءُ: پانی کا بند ہونے سے چکر لگانا۔ تَحَیَّر الماء: بمعنی حار الماء ـ المکانُ بالماء: جگہ کا پانی سے بھر جانا۔ اِسْتَحارَ السحابُ: بادل کا بے حرکت ہونا، کسی طرف نہ جانا۔ الحائِر جمع حُوْران و حِیران: پانی جمع ہونے کی جگہ، کنارے اٹھی ہوئی نشیبی زمین۔ الحَیر: باغ۔ الحَیَر و الحِیَر: بہت مال و اہل۔ کہا جاتا ہے: لا آتیه حِیَرَ دَهْرٍ: میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ المَحَارَة: پانی جمع ہونے کی جگہ المُسْتَحِیر: بوجھل و بے حرکت بادل جس کو ہوا نہ چلائے۔

۳۔ استحارَ المکان و بالمکان: کسی جگہ کئی دن فروکش رہنا۔ الـحَیْر: حفاظت، دفاع، جائے امن۔ الحارة: محلہ۔

۴۔ المَحَارَة جمع مَحَار: سیپی۔ المحارنان (ع ا): سرین کے وہ دونوں گول سرے جن میں رانوں کے سرے گھومتے ہیں۔

○ حَارَ ـَ حَیْرَةً، حَیْرًا و حَیَرَاناً: بوکھلا جانا، ـ فی: میں بے بس ہونا یا ہو جانا، کے متعلق کچھ نہ جاننا، ـ: ہچکچانا، پس و پیش کرنا۔ ـ بین، و بین: کے مابین انتخاب سے عاجز رہنا۔ حارَ فی امرہ: کے بارے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

میں بوکھلانا چکرانا، پریشان ہونا، حواس باختہ ہونا، خوف زدہ ہونا، بدحواس ہونا۔حَیَّرَہٗ: کو بوکھلا دینا، چکرا دینا، گمراہ کرنا، پریشان یا حواس باختہ کرنا، دم بخود کر دینا، گھبرا دینا، الجھانا، پریشان کرنا۔تَحَیَّرَ: بوکھلا جانا، ۔فی: سے خوف زدہ ہو جانا، گھبرا جانا، ڈر جانا، متحیر ہونا، حیران و پریشان ہونا۔۔ فی: کے بارے میں بدحواس ہو جانا۔۔بین: کے مابین بے یقینی سے پیش وپیش کرنا۔تَحَیَّرَ فی امرہ: میں بوکھلا جانا، بدحواس ہو جانا، گھبرا جانا۔اِستَحارَ: بمعنی تَحَیَّرَ، حَیْر: باغیچہ جس کے گرد باڑہ لگائی گئی ہو، چار دیواری۔ حَیْرُ الحَیوان: جانوروں کا باغ، چڑیا گھر۔حَیْرَۃ: بوکھلاہٹ، پریشانی، الجھن، الجھاؤ، حیرانی گھبراہٹ، بے بسی، لاچاری، بے بسی، فی حیرۃ: پریشان، گھبرایا ہوا، الجھن میں، بدحواس، بے بس، لاچار۔حَیْرَان مونث حَیْرَیٰ جمع حَیَارَیٰ بوکھلایا ہوا پریشان، خوف زدہ، گھبرایا ہوا، حواس باختہ دم بخود، حیران، بدحواس، غیر یقینی، بے بس، لاچار، جھینپنے والی، شرمیلی (مسکراہٹ) الجھے ہوئے بے ربط بے جوڑ، بے ترتیب، بکھرے ہوئے (الفاظ وغیرہ) تَحَیُّر: بوکھلاہٹ، پریشانی، الجھن، الجھاؤ حیرانی، گھبراہٹ، بے بسی، لاچاری، بے بسی۔حائِر: پریشان، حیران، بوکھلایا ہوا، چکرایا ہوا بہکا ہوا، بدحواس، خوف زدہ، گھبرایا ہوا۔۔فی: کے بارے میں بوکھلایا ہوا، غیر یقینی ۔ راہ راست سے ہٹا ہوا، گمراہ، غلط راستے پر، بھولا ہوا، بھٹکا ہوا، گم کردہ راہ۔حائر فی امرہ: بوکھلایا ہوا، چکرایا ہوا، بہکا ہوا، پریشان، حواس باختہ، بے بس، لاچار۔مُحَیَّر: پریشان، بدحواس، بے بس، لاچار، مُتَحَیِّر و مُحتار بمعنی حائر۔

حاز: حَازَ ۔ حَیْزاً الابلَ: اونٹوں کو ہانکنا۔تَحَیَّزَ الشیءُ: ایک ہی جگہ منحصر ہونا۔ ت الحَیَّۃُ سانپ کا کنڈلی مارنا۔الحَیِّز: دیکھو حوز۔

حاس: ۱۔حَاسَ ۔ حَیْساً الشیءَ: کو ملانا۔۔ ر حَیَّسَ الحَیْسَ: حیس بنانا۔الحَیْس (ط): کھجور، گھی اور ستو سے تیار کیا ہوا کھانا۔المُحَیُّوس: جس کا باپ غلام اور ماں لونڈی ہو۔غلام زادہ۔

۲۔حاسَ ۔ حَیْساً الحبلَ: رسی بٹنا۔الحَیْس: کچا ردی کام۔

۳۔حِیْسَ حَیْسُہم: کی ہلاکت کا قریب آنا۔

حاش: ۱۔حَاشَ ۔ حَیْشاً: کو گھبراہٹ میں ڈالنا۔منہ سے گھبرانا۔۔ الرجلُ: گھبراہٹ سے سکڑ کر جلدی کرنا۔ تَحَیَّشَ: گھبرانا۔الحَیْشان: بہت گھبرانے والا، خوف زدہ۔

۲۔حَاشَ ۔ حَیْشاً الوادی: وادی کا دراز ہونا۔

حاص: حَاصَ ۔ حَیْصاً و حَیْصَۃً و حُیُوصاً و مَحِیصاً و حَیَصاناً و انحاصَ و تَحایَصَ عن کذا: سے الگ ہونا۔ ہٹنا، بچنا۔ کہتے ہیں: من حاص عن الشر سلم: جو برائی و شر سے الگ رہا وہ محفوظ رہا۔حَایَصَ ہٗ: پر غالب آنا، کو فریب دینا۔حَیْصَ بَیْصَ: پیچیدگی یا شدت و تنگی۔ کہا جاتا ہے: وقع فی حَیْصَ بَیْصَ یا فی حِیصَ بِیصَ: وہ ایسی پیچیدگی میں پھنسا کہ جس سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں۔ المَحِیص: بھاگنے کی جگہ، پناہ۔ کہا جاتا ہے۔لا مَحِیصَ لہ من ہذا الامر: اس کے لئے اس معاملہ سے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔الجَیُوصُ من الدواب: بدکنے والا جانور جو اس راستہ سے ہٹ جائے جس پر اس کا مالک اسے چلانا چاہتا ہے۔

○ حاصَ ۔ حَیْصاً و حَیْصَۃً و مَحِیصاً عن: سے بھاگنا فرار ہونا، بھاگ جانا، کو چھوڑ کر بھاگ جانا۔ اِنحاصَ: یہی معنی جو حاصَ عن کے ہیں۔حَیْص و حَیْصَۃ: فرار، نجات، چھٹکارا۔وَقَعَ فِی حَیْصَ بَیْصَ: مشکلات سے دوچار ہونا، بڑی مشکل یا پریشانی میں پھنس جانا۔مَحِیص: فرار، نجات، چھٹکارا، جائے پناہ، ماعنہ محیص: یہ ناگزیر ہے۔لم یکن لہم محیصٌ من ان: وہ صرف یہ کر سکے، ان کے پاس اس کے سوائے کوئی متبادل صورت نہیں تھی۔

حاض: حَاضَ ۔ حَیْضاً و مَحِیضاً و مَحَاضاً و حَیَّضَت المرأۃُ: عورت کو حیض آنا، ماہواری آنا صفت: حائِض و حائِضَۃ جمع حُیَّض و حَوائِض، حَیَّضَ الماءَ: پانی بہانا۔الحِیَاض: حیض کا خون۔الحِیضَۃ و المَحِیضَۃ: حیض کا چیتھڑا۔

حیع: حَیْعَلَ المؤذنُ: مؤذن کا حیّ علی الصلوۃ۔ حیّ علی الفلاح کہنا۔

حاف: ۱۔حَافَ ۔ حَیْفاً علیہ: پر ظلم کرنا زیادتی کرنا، صفت: حائِف جمع حُیَّف و حُیُف و حافَۃ: الحائف جمع حافَۃ و حُیَّف و حُیُف (فا): ظالم، زیادتی کرنے والا۔

۲۔ تَحَیَّفَ الشیءَ: چیز کو اطراف سے گھٹانا۔ حائِف الجبل: پہاڑ کا کنارہ۔ الحِیفۃ جمع حِیَف: کنارہ، گوشہ۔

۳۔الحِیفۃ: قمیص کے دامن میں لگایا ہوا پیوند، شگاف کے واسطے ہنکایا ہوا جانور۔الاحیف مونث حَیْفاء من الامکنۃ: وہ جگہ جہاں بارش نہ ہو۔

○ حافَ ۔ حَیْفاً علی: سے ناانصافی کرنا، سے ظلم کرنا کو نقصان پہنچانا، کسی چیز کو محدود کرنا، مختصر کرنا کم کرنا، کمزور کرنا، کسی جگہ پر بے جا مداخلت کرنا، پر غاصبانہ قبضہ کرنا۔تَحَیَّفَ ہ / من: پر مداخلت بیجا کرنا، پر قبضہ غاصبانہ کرنا، کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا۔حَیْف: ظلم، ناانصافی، تکلیف، نقصان، حیف علیہ: کتنی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔لاحیف بہ: یہ بے جا نہیں ہے، یہ نہایت مناسب ہے۔

○ حَیْفاء: حیفا (شمال غربی اسرائیل کی بندرگاہ)۔

حاق: ۱۔حَاقَ ۔ حَیْقاً و حُیُوقاً و حَیَقاناً بہ: کو گھیرنا، کا احاطہ کرنا۔۔ بہم العذابُ: پر عذاب نازل ہونا۔ اَحَاقَ بہ: کو گھیرنا، کا احاطہ کرنا۔۔الشیءَ بکذا: کو پر گرانا۔ اِحتَاقَ علی الشیء: کی احتیاط کرنا۔

۲۔حَاقَ ۔ حَیْقاً و حُیُوقاً و حَیَقاناً فیہ السیفُ: میں تلوار کا اثر کرنا، نشان ڈالنا۔

۳۔حَاقَ ۔ حَیْقاً و حُیُوقاً و حَیَقاناً بہم الامرُ: پر امر لازم ہونا، واجب ہونا۔الحَیْق: مکافات عمل، کام کا برا نتیجہ۔

۴۔حَایَقَ مُحَایَقَۃً ہٗ: سے حسد کرنا، بغض کرنا۔ الحَیْقَل: خیر و بھلائی سے خالی آدمی۔

○ حاقَ ۔ حَیَقَان: کو گھیرنا، گھیرے میں لینا، کو چاروں طرف سے نرغے میں لینا، کا محاصرہ کرنا، پر سزا آ پڑنا، نازل ہونا، پر واقع ہونا، گرنا، کو جالینا، جا پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، قبضہ میں کر لینا، مغلوب کرنا، سر کرنا، زیر کرنا۔۔فی: تلوار کا جسم میں گھس جانا اثر کرنا، کو چھیدنا۔۔فی: کسی چیز یا شخص پر اثر کرنا، اثر ڈالنا، دباؤ ڈالنا، اَحَاقَ ب: کو گھیرنا، چاروں طرف سے نرغے میں لینا۔۔ب ہ: پر کچھ گرانا۔ ہ ب: کو پر گرانا۔ حَیْق: نتیجہ، انجام، برے کام کا اثر۔

حاك: ۱۔حَاكَ ۔ حَیْكاً و حَیَكاناً: متکبرانہ چال چلنا، اینٹھ کر چلنا، صفت: حائِك و حَیَّاك مؤنث حَیَّاكۃ و حَیكانۃ و حَیكیٰ، مشیۃ حیکیٰ: متکبرانہ چال۔

۲۔حَاكَ ۔ حَیْكاً و حَیَكاناً و اَحَاكَ السیفُ: تلوار کا کاٹنا۔۔السیف او الکلامُ فیہ: تلوار یا کلام کا کسی میں اثر کرنا۔

۳۔ اِحتَاكَ احتیاكاً بثوبہ: کپڑے میں لپٹنا، چھپنا۔

حال: ۱۔حَالَ حُیُولاً الشیءُ: متغیر ہونا بدل جانا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ حَالَ ـِ حُيُولاً الماءُ: پانی کا وادی میں جمع ہونا۔ الحَيْل جمع اَحْيَال و حُيُول: وادی کے بطن میں جمع شدہ پانی۔

۳۔ الحَيْل جمع اَحْيَال و حُيُول: قوت۔ الحَيْلَة: ہوشیاری، دور بینی، کاموں میں تصرف کی قوت، بھیڑوں اور بکریوں کا ریوڑ۔ الحِيلة جمع حِيَل: تصرف کی قوت، ہوشیاری، دور بینی۔ الاَحْيَل و الأَحْوَل: بہت حیلہ باز۔ الحِيلان (ر): غلہ گاہنے کا آلہ۔

حان ۱۔ حانَ ـِ حَيْنًا و حَيْنُونَةً الشيءُ کا وقت قریب آنا۔ ـ له ان يفعل كذا: کے کام کرنے کا وقت کا قریب آنا۔ ـ السنبلُ: بالی کا خشک ہونا اور اس کی کٹائی کا وقت قریب آنا۔ حَيَّنَ هُ: کا وقت مقرر کرنا، حَايَنَ هُ: سے وقت معین کرنے کے لئے معاملہ کرنا۔ أَحْيَنَ إِحْيَانًا الرجلُ او الشيءُ: کا وقت آپہنچنا، ـ بالمكان: کچھ دیر کے لئے کسی جگہ اقامت۔ تَحَيَّنَ منه غَفْلَةً: کی غفلت کی تاک میں رہنا۔ کہا جاتا ہے: هو يتحين طعام الناس: وہ لوگوں کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اِسْتَحْيَنَ: مناسب وقت کی امید رکھنا۔ الْحِيْن جمع أَحْيَان: جج اَحَايِين: وقت۔ مدت الحِينَة و المِحْيَان: وقت۔

۲۔ حَانَ ـِ حَيْنًا و حَيْنُونَةً فلانٌ: ہلاک ہونا یا رنج و مشقت میں پڑنا۔ اَحَانَ هُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہلاک کرنا۔ الحَيْن: ہلاکت، رنج و محنت۔ الْحان و الحَانة: شراب بیچنے کی دکان۔ الحائِنَة جمع حَوَائِن: مصیبت۔

۳۔ حَانَ ـِ حَيْنًا و حَيْنُونَةَ الرجلُ: توفیق سے محروم ہونا۔ حَيَّنَ اللّٰهُ فلانًا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو نیکی کی توفیق نہ دینا۔ تَحَيَّنَ: توفیق و ہدایت سے محروم ہونا۔ الحائن: احمق۔

○ حَانَ ـِ حَيْنًا: (وقت) کا قریب آنا، آنا، آپہنچنا۔ اتفاقاً واقع ہونا۔ حَانَ الوقتُ: (صحیح) وقت آگیا ہے۔ اب اس کا وقت ہے۔ حَانَ له ان: اس کے لئے وقت آگیا ہے کہ وہ...... اَمَا حَانَ لهم أن يفهموا؟: کیا وہ ابھی تک نہیں سمجھے؟ حانت منی التفاتة الی: اتفاق سے میری نظر اس پر پڑی۔ حَيَّنَ هُ: کے لئے وقت مقرر کرنا۔ اَحَانَ هُ: کو تباہ کرنا، کا نام و نشان مٹاڈالنا۔ تَحَيَّنَ هُ: کا (وقت یا موقع کا) انتظار کرنا۔ تَحَيَّنَ الفرصةَ: موقع کا انتظار کرنا، موقع کی تاک میں رہنا، ہونا۔ اِسْتَحْيَنَ: مناسب وقت کا انتظار کرنا۔ حَان: ہوٹل کی شراب گاہ، بار، شراب خانہ، مے خانہ۔ حَانَة جمع حانَات: ہوٹل کی شراب گاہ، شراب کی دکان، شراب خانہ، کلال خانہ، کھانے پینے اور شراب کی دوکان، شراب پینے کا کمرہ، قیام و طعام گاہ جہاں شراب بھی بکتی ہے۔ حَيْن: موت، تباہی۔ حِيْن جمع اَحْيَان و احايين: وقت، سازگار وقت موافق وقت، اچھا وقت، موقع، حينَ: کے وقت، پر، اس وقت جب، جب، جیسے ہی حِينًا: کچھ وقت کے لئے ایک بار، ایک دن۔ اَحْيَانًا، گاہے گاہے، کبھی کبھی، خاص موقع پر، بعض اوقات، وقتاً فوقتاً۔ حِينًا ـ حِينًا: بعض اوقات...... بعض اوقات، گاہے گاہے، فی الاحايين: گاہے گاہے، بعض اوقات، گاہے ماہے، کبھی کبھی۔ فی بعض الاحيان (احايين) اور بعضَ الأَحيان: بعض اوقات، گاہے بگاہے، کبھی کبھی، وقتاً فوقتاً، کبھی کبھار۔ فی اَغْلَب الاحيان: عموماً، عام طور پر، بالعموم، زیادہ تر، بیشتر، اکثر و بیشتر اکثر صورتوں میں۔ الی حين: کچھ وقت تک، اس دوران میں اس اثنا میں، فی الحال۔ فی حينه: تب، اس وقت، اس کے وقت میں، مناسب وقت میں، مقررہ وقت پر۔ ذالحِين: ابھی، ابھی بھی، ذرا سی دیر پہلے۔ مِن ذلك الحِين: اس وقت سے، اِلی ذلكَ الحين: اس وقت تک۔ فی حين: حالانکہ، ہرگاہ۔ فی حين ان اور على حين ان: اسی وقت جب، حالانکہ کے دوران میں على حينِ هُمْ يَزْعَمُون: حالانکہ، دوسری طرف انکا دعوی ہے، دعوی کرتے ہیں۔ حِينًا بعد حِينٍ، بين حين و حين، من حين الی حين، من حين لِآخَرَ اور بين حين و آخَرَ: وقتاً فوقتاً، کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ حِينَئِذٍ: اس وقت، تب، اس دن، حِينَذَاكَ: اس وقت، تب، اس دن۔ حِينَمَا: کے دوران میں، جب، چونکہ۔

حيي: ۱۔ حَيِيَ ـَ حَيَاةً: زندہ رہنا (ادغام کے ساتھ حَيَّ يَحْيِيُّ بھی اس معنی میں ہے)۔ حَيَّا تَحِيَّةً هُ: کو حَيَّاكَ اللّٰهُ کہنا یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے۔ ـ هُ اللّٰهُ، اللہ اس کو باقی رکھے، حَايَا مُحَايَاةً الصبيَّ: بچہ کو غذا دینا۔ النارَ: آگ سلگانا۔ اَحْيَاهُ: کو زندہ کرنا، ـ النارَ: پھونک مار کر آگ سلگانا، ـ الارضَ: زمین کو سرسبز بنانا۔ الرائدُ الارضَ: گھاس پانی تلاش کرنے والے کا زمین کو سرسبز پانا۔ واِسْتَحْيَاهُ: کو زندہ چھوڑنا الحَيّ: زندہ (نسبت کے لئے: حَيَوِيّ، کہا جاتا ہے: لايعرف الحيَّ من اللَيّ: وہ بیوقوف ہے۔) محلہ، قبائل عرب میں سے چھوٹا قبیلہ۔ الحَيَا و الحَيَاء: تروتازگی، بارش، سبزی۔ الحياة: زندگی۔ الحَيَّة: الحيّ کا مؤنث۔ جمع حَيَّات و حَيَوات (ح): سانپ (مذکر و مؤنث) ارض حَيَّة: سرسبز و شاداب زمین۔ الحَيُّوت: نر سانپ۔ المَحْيا جمع مَحَاي: زندہ رہنے کی جگہ، زندگی الحَيَوان جمع حيوانات (ح): جاندار، جانور۔ حيوانات العصر الحجری: پتھر کے زمانہ کے جانور۔ حيوانات افريقيا: افریقہ کے جانور۔

۲۔ حَيِيَ ـَ حَيَاءً منه: سے شرمندہ ہونا، شرمانا۔ حَايَا مُحَايَاةً زيدًا: زید کو شرم و غیرت دلانا۔ اِسْتَحْيَاهُ و منه: سے منقبض ہونا، سے رکنا۔ واِسْتَحى منه: سے شرمانا، شرمندہ ہونا۔ الحيا: شرم و حیا، توبہ، کسی چیز سے منقبض ہونا اور ملامت کے خوف سے اس کو چھوڑ دینا۔ الحَيِيّ و الحَيّ: شرمیلا، حیادار۔ المُسْتَحِيَة (ن): چھوئی موئی۔

۳۔ حَيِيَ ـَ حَيَاءً الطريقُ: راستہ کا نمایاں ہونا۔

۴۔ حَيَّا تَحِيَّةً هُ: کو سلام کرنا۔ المُحَيَّا: چہرہ۔

۵۔ حَيَّا: قریب ہونا، کہا جاتا ہے: حَيَّا الخمسين، من عمرِهِ: وہ پچاس کے قریب عمر کو پہنچا۔

۶۔ اَحْيَا الليلَ: رات کو جاگتے رہنا، جاگ کر رات گزارنا۔

۷۔ حَيَّ و حَيَّ هَلَا و حَيَّهَلَ: اسم فعل بمعنی متوجہ ہو، جلدی کرو، کہا جاتا ہے: حَيَّ على الصلاة: نماز کے لئے آؤ۔ یہ اسم فعل امر کے معنی میں فتح پہ مبنی ہے۔ حَيَّ هَلُ بفلان: فلاں کو بلاؤ۔

○ علم الاحياء: حیاتیات۔ عالِمُ الاحياء: ماہر حیاتیات۔ اِحْيائي: حیاتیاتی۔ اِحْيَائِيُّون: ماہر حیاتیات۔ كيمياء اِحيائية: حیاتیاتی کیمیا، (bio chemistry) قليل الحياء: بے شرم، بے حیاء۔ قلة الحيا: بے شرمی، بے حیائی۔ احيا السَهرةَ: شام کو محفل میں تمثیل پیش کرنا، گانا یا کرتب دکھانا، کسی کھیل میں کردار ادا کرنا۔ اَحْيَا حفلةً: فنکار کا کسی تقریب میں اپنا فن پیش کرنا۔ احيا الذكری (کسی مرنے والے کی) برسی منانا۔ اَحْيَا الليلَ صلاةً: رات نماز پڑھتے گزارنا۔ تَحِيَّةً لِذِكْرَاهُ: کی یاد میں۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خ

خ۔ تلفظ خا، حروف تہجی کا ساتواں اور حروف ابجد میں ۶۰۰ کا حامل ہے۔ حروف حلقیہ سے ہے۔

خبّ ۱۔ خَبَّ ـُ خَبًّا النباتُ: پودے کا اونچا ہونا۔

۲۔ خَبَّ ـُ خَبًّا الرجلُ: اپنی چیز کو روکنا۔ بخل سے زمین کے نشیب میں جانا تا کہ اس کا پتہ نہ لگے کہ کہاں ہے۔ الخب جمع خُبُوب: فتنہ وفساد۔

۳۔ خَبَّ ـُ خَبًّا و خَبِيبًا و خَبَبًا و اِخْتَبَّ الفرسُ فی عدْوِہٖ: گھوڑے کا دوڑنے میں کبھی اگلی ٹانگوں پر کھڑا رہنا کبھی پچھلی پر اس سے ضرب المثل ہے۔ اِمّا خَبَّتْ و اِمّا برَکَتْ: وہ یا تو تیز دوڑی یا بیٹھ ہی گئی۔ اس شخص کے متعلق بولی جاتی ہے جو کبھی تو بھلائی میں انتہا کر دے اور کبھی برائی میں اور یوں دونوں میں انتہا کو پہنچ جائے۔ اَخَبَّ الفرسَ: گھوڑے کو دوگام چلانا۔ الخَبَب (مص): دوڑ کی ایک قسم (کہا جاتا ہے۔ مَشَی خبَبًا: وہ ایک چال چلا۔): تیز رفتاری۔

۴۔ خَبَّ ـُ خِبًّا و خِبَابًا البحرُ: سمندر کا چڑھنا، اُمنڈنا، متلاطم ہونا، موجزن ہونا، چڑھنا اور اترنا، ابھر کر گرنا، طوفانی ہونا، طوفان خیز ہونا، الخِبّ: سمندری طوفان، کہتے ہیں: اَصَابَهُمْ خِبٌّ: ان کو آندھی کے جھونکوں اور موجوں کے تھپڑوں نے گھیر لیا۔

۵۔ خَبَّ ـَ خَبًّا و خِبًّا: دغاباز و مکار ہونا۔ خَبَّبَ ہٗ: کو دھوکا دینا، خراب کرنا کہا جاتا ہے۔ خَبَّبَ علی فلان صدیقَهٗ: اس نے فلاں کے دوست کو خراب کر دیا۔ الخَبّ جمع خُبُوب (مص): دغاباز، الخَبَّاب: دغاباز۔

۶۔ خَبَّبَ لحمُهٗ: کا گوشت کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی کھال پر جھریاں پڑنا۔ الخُبَّة: گوشت کا ایک پارچہ الخَبِيبَة جمع خبائِب: گوشت کا ایک پارچہ۔

۷۔ الخَبّ جمع خُبُوب و اَخْبَاب: نشیب میں واقع چھپی ہوئی زمین، درخت کی چھال الخَبّ جمع خُبُوب: ریت کا لمبا قطعہ۔ دو سخت زمین کے ٹکڑوں میں نرم زمین کا قطعہ۔ الخَبَّة: پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ و المَخَبَّة: وادی کی گہرائی یا وادی کا درمیانی حصہ۔ الخبَّة (بتثلیث الخاء): ریت کا لمبا قطعہ یا بدلی کی دھاری، پٹی کی طرح کا کپڑے کا ایک چیتھڑا۔ الخَبَب: شعر کی ایک بحر۔ ثوبٌ خِبَبٌ و خَبَائِبُ و اَخْبَاب: پھٹا پرانا کپڑا۔ الخَبِيبَة جمع خَبَائِب: وادی کا درمیانی حصہ۔

۸۔ خَبْخَبَ ہٗ: سے معذرت کرنا، کو معاف کرنا۔ ــــ الرجُل: ڈھیلے پیٹ والا ہونا۔ تَخَبْخَبَ بدنهٗ: کے بدن کا موٹاپے کے بعد دبلا و لاغر ہونا۔ ــــ الشیءُ المضطربُ: ہلتی چیز کا ڈھیلا ہونا۔ الحرُّ: گرمی کی شدت کا کم ہونا۔

○ خاء: خ کا نام۔

○ خاتون جمع خواتین: خاتون، سماج کی ممتاز عورت، بیگم زَهْرَةُ الخاتون: لق ودق صحراء کا چھوٹا نیلے رنگ کا پھول۔

○ خاخام: حاخام، ربی (یہود کا دینی پیشوا)۔

○ خَارَصِيْن و خَارَصِينی: جست (Zinc)۔

○ خَازُوق جمع خَوَازِيق: کھمبا، نوکدار بلّی، گندی چال۔ هذا خازوق: یہ سخت نصیبہ ہے۔

○ خَاقَان جمع خَوَاقِيْن: سب سے بڑا سردار، حاکم، فرمانروا بادشاہ شہنشاہ۔

○ خَاکِی: خاکی (رنگ)

○ خَام: خام، جس سے کام نہ لیا گیا ہو، جس سے کوئی چیز نہ بنائی گئی ہو، جسے کمایا نہ گیا ہو، جسے رنگا نہ گیا ہو (چمڑا، کھال) سن کا، کتان کا، سوتی (کپڑا) جمع خامات: خام مال نا تجربہ کار، کچا، غیر تربیت یافتہ، غیر کاریگر، سیدھا سادا، سادہ لوح، گنواروں کا سا، گنوار، اجڈ جمع خامات: خام اشیاء جلود خام: کچا چمڑا، خیوط خام خام ریشے، زیت خام: غیر صاف شدہ تیل، کروڈ آئل، سُکّر خام: کچی شکر، المُوَاد الخام: خام اشیاء۔

○ خَان جمع خانات: ہوسٹل، کارواں سرائے، سرائے، مسافر خانہ، بھٹیار خانہ، قیام و طعام گاہ، قیام گاہ جہاں شراب بھی ملتی ہے۔ شراب خانہ، کلال خانہ، کھانے پینے اور شراب کی دوکان، الخان الخَلِيلی: قاہرہ کا ایک ضلع، (آرٹ، تجارت اور بازاری سرگرمی کا مرکز) خان یُونِس: غازہ سیکٹر کا ایک شہر۔ خَانَة جمع خانات: اخبار کا کالم، (شطرنج کی بساط کا) مربع۔

○ خَبَّ ـُ خَبًّا و خَبَبًا و خَبِيبًا: دوگامہ یا دلکی چال چلنا، دلکی چلنا (گھوڑے کا)، گرتے پڑتے چلنا، جھوم کر چلنا، مٹرگشت کرنا، ٹہلتے پھرنا، ٹہلنا۔ ــ فی: (ریت میں) دھنسنا۔ ــ ـُ خَبًّا: سمندر کا جوش میں آنا، موجیں مارنا، متلاطم ہونا، طوفانی ہونا، طوفان خیز ہونا، چڑھنا، امنڈنا، موجزن ہونا۔ طوفان خیز ہونا، چڑھنا، امنڈنا، موجزن ہونا۔ چڑھنا اور اترنا۔ ــ ـُ خَبًّا: سمندر کا طوفانی ہونا، امنڈنا، چڑھنا اترنا، موجزن ہونا۔ تَخَبَّبَ و اِخْتَبَّ: دوگامہ یا دلکی چال چلنا، دلکی چلنا۔ خبب: دوگامہ، سبک خرامی، دلکی، دلکی چال۔ خَبّ و خِبّ: سمندر کا اتار چڑھاؤ، تموج، تلاطم، موجزن ہونا، طوفانی ہونا۔ طوفانی یا طوفان خیز

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سمندر۔ خَبّ: فریبی، دغاباز، جھوٹا دعوے دار، ٹھگ دھوکے باز، عیار۔

خبا: ۱۔ خَبَأَ ۔ خَبْأً و خَبَّأَ الشیءَ: کو چھپانا۔ اِختَبأَ منه: سے چھپنا۔ الشیءَ: کو چھپانا۔ کہا جاتا ہے: اِختَبأَ له خبیئاً: اس نے اس سے کوئی چیز چھپا کر اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ الخَبْءُ و الخبیءُ: پوشیدہ یا چھپائی ہوئی چیز۔ الخَبْءُ من الارض: زمین کی نباتات، روئیدگی۔ من السماء: بارش، کہتے ہیں: اخرج خبءُ السماءِ خبءَ الارض: آسمان کی بارش نے زمین پر روئیدگی پیدا کی۔ الخِباء جمع اَخبیَة: اونٹوں کی پشم، اون یا بالوں کا خیمہ۔ (ز): چھلکا، پوست، بھوسی، چھال۔ الخبینة جمع خبایا: پوشیدہ رکھی ہوئی چیز۔ الخُبَأة: بنی۔ المَخبأ جمع مَخابی: چھپنے کی جگہ۔ الخابئة و الخابیة جمع خَوابٍ و خَوابی: بڑا مٹکا۔ بنت الخابیة: شراب۔

۲۔ خابأہُ: سے پہیلی کہنا۔

○ خَبَأَ ۔ خَبْأً و خِبَاءً: کو چھپانا۔ تَخَبَّأَ: چھپنا، اپنے آپ کو چھپانا۔ اِختَبأَ: چھپنا، اپنے آپ کو چھپانا، نظر سے اوجھل ہو جانا، گم ہونا، غائب ہونا، ناپید ہونا۔ خَبْءٌ و خِبْءٌ: چھپایا ہوا، چھپی ہوئی چیز۔ خبیئة جمع خبایا: جسے چھپایا گیا ہو، پوشیدہ، مخفی چیز، سامان رکھنے کی خفیہ جگہ۔ خبایا الارض: زمین میں چھپی ہوئی چیزیں، قدرتی وسائل۔ مَخبأ جمع مَخابی: چھپانے کی جگہ، لوگوں کے چھپنے کی جگہ۔ جائے پناہ، (مجرموں کا) اڈہ، (بھوتوں کا) بسیرا، گوشہ تنہائی، خلوت، ہوائی حملہ سے محفوظ جگہ، تہ خانہ۔ خِباء جمع اَخبِئة و اَخبیَة: خیمہ، بھوسی، چھال، چھلکا۔ خابئة و خابیة جمع خوابِیء و خواب: بڑا برتن، لکڑی کا پیپا، مرتبان۔ مُخبآت: مخفی یا پوشیدہ چیزیں، راز، بھید۔ مُختَبِیء: چھپا ہوا، پوشیدہ۔

خبت: خَبَتَ ۔ خَبْتاً ذکرُہُ: کا چرچا مٹ جانا۔ اَخْبَتَ القومُ: لوگوں کا پست اور فراخ زمین میں اترنا۔ — الی اللّٰه: اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا۔ الخَبت جمع اَخبات و خُبُوت: پست اور فراخ زمین۔ الخَبیتة و الخِبتة: تواضع، فروتنی، عاجزی۔ الخَبیت: منکسر (کہا جاتا ہے: هو خبیتُ القلب: وہ منکسر القلب ہے۔ حقیر، برا۔

○ اَخبَتَ اِلی: (اللہ تعالیٰ) کے سامنے عاجزی کرنا۔

خبث: ۱۔ خَبُثَ ۔ خُبثاً و خَباثةً و خَباثیةً: پلید و ناپاک ہونا صفت: خَبیث جمع خُبُث و خُبَثاء و اَخباث و خَبَثة۔ خَبَّثَ الطعامَ: کھانے کو ناگوار بنانا۔ الخَبیث جمع خُبُث و خُبَثاء و اَخباث و خَبَثة مؤنث خَبیثة جمع خبیثات و خبائث: ناپسندیدہ، نجس، ہر خراب چیز، ہر حرام چیز۔ الخَبائث: وہ چیزیں جنہیں عرب ناپاک و نجس جان کر نہیں کھاتے تھے جیسے سانپ، گبریلا وغیرہ۔ الخَبَث: سونے لوہے وغیرہ کا میل یا کھوٹ۔ بے فائدہ چیز۔ الأَخبَثان: بول و براز، پیشاب، پاخانہ۔

۲۔ خَبُثَت نفسُہُ: کا جی متلانا۔

۳۔ خَبُثَ ۔ خُبثاً: ردی ہونا، مکار ہونا، برے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ خَبَّثَہُ: کو خبیث بنانا۔ اَخبَثَ: برے لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ ۔ہُ: کو برائی سکھانا، خراب کرنا، برائی کی طرف منسوب کرنا۔ تَخَبَّثَ: بتکلف شرارت کرنا۔ تَخابَثَ: برائی اور شرارت کو ظاہر کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اِستَخبَثَ: شرارت کرنا، خباثت کرنا۔ ۔ہُ: کو خبیث پانا۔ خُبَثُ: خبیث سے معدول ہے اور مرد کو گالی دینے کے لئے حرف ندا کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں: یا خُبَثُ: اے بدکار مرد۔ الخبیث جمع خُبُث و خُبَثاء و اَخباث و خَبَثة مؤنث خبیثة جمع خبیثات و خبائث: ردی، بہت مکار۔ خَباثِ: خبیثة سے معدول ہے اور عورت کو گالی دینے کے لئے نداء میں مستعمل ہے۔ آپ کہتے ہیں: یا خَباثِ (کسر بنی): اے بدکار عورت۔ المَخبَثة: سبب فساد (کہا جاتا ہے۔ الکفر مخبثة لنفس المُنعِم: ناشکری محسن کے دل کو خراب و فاسد کرنے کا سبب بنتی ہے۔) مضر چیز۔ الخَبائث: برے کام۔ الخِبِّیثی: برائی، پلیدی۔

○ خَبُثَ ۔ خُبثاً و خَباثةً: برا ہونا، پاپی ہونا، بدکار ہونا، شریر ہونا، فاسد ہونا، حرام زادہ ہونا، مضر ہونا، نقصان رساں ہونا، کینہ ور ہونا، بدباطن ہونا، بدخواہ ہونا، بد اندیش ہونا، متعدی ہونا، عیبی ہونا، بدطینت ہونا۔ تَخابَثَ: خباثت، شرارت سے پیش آنا، کینہ ظاہر کرنا، پریشان محسوس کرنا۔ خُبث: برائی، بدکاری، بداعمالی، فسق و فجور، (بیماری کی) نقصان رسانی، عناد، بغض، کینہ، بدباطنی، بدخواہی، کینہ جوئی، بدطینی، بدخصالی۔ خَبَث: فضلہ، ردی یا فضول چیز، کف، جھاگ، پھین، میل، تلچھٹ، گاد، ردی یا نکمی چیز، زنگ، کھوٹ، کوڑا کرکٹ، دھات کا میل، کھنگر۔ خَبیث جمع خُبُث و خُبَثاء و اَخباث و خَبَثة: برا، مضر، خراب، پاپی، بدکار، شرارتی، فاسد، حرام زادہ، نقصان رساں، کینہ ور، بدباطن، حاسد بدخواہ، بدکار، شریر، بدطینت، عیبی، کینہ پرور، موذی، زیاں کار، زہریلا، مخرب اخلاق، متعدی، دل شکن، توہین آمیز، ناپسندیدہ، نازیبا، مکروہ بدبودار، گھناؤنا، تنفر آفرین، نفرت انگیز، متلی پیدا کرنے والا، برگشتہ کرنے والا۔ اَخبَث: بدتر، زیادہ برا، زیادہ بدکار۔ خَباثة: برائی، بدکاری، شرارت، کینہ، بغض، عناد، بداندیشی، بدخواہی، خباثت شدت، بدخواہی، دشمنی، بدطینی، بدخصالی۔

خبج: خَبَجَ ۔ خَبْجاً ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ الرجلُ: گوز کرنا، پادنا۔ الخَبَج و الخُباج: گوز، پاد۔ الخَبِج و الخباجاء: احمق، بے وقوف۔

خبر: خَبَرَ ۔ خُبراً و خِبرةً الشیءَ: کو تجربہ سے جان لینا، آزمانا۔ تَخابَرا: ایک دوسرے کو خبر دینا۔ اِختَبَرَ الشیءَ: کا تجربہ کرنا، کو آزمانا۔ الخُبر: تجربہ، آزمائش، کہا جاتا ہے۔ صدَّق الخبرَ الخُبرُ: تجربہ اور مشاہدہ نے سنی ہوئی خبر کی تصدیق کی۔ المُختَبَر: تجربہ گاہ، کیمیاوی تجزیہ گاہ۔ الخَبیر جمع خُبَراء (فی اصطلاح المحاکم) عدالتی اصطلاح میں: تحقیقات کرنے والا۔ المَخبَر و المَخبَرة و المَخبُرة: تجربہ اور آزمائش کے ذریعہ سے حاصل ہونے والی واقفیت و آگاہی۔

۲۔ خَبُرَ ۔ و خَبَرَ ۔ خُبراً و خِبراً و خُبرةً و خِبرةً و مَخبُرةً و مَخبَرَةً الشیءَ و بہ: کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہونا، باخبر ہونا۔ خَبَّرَ و اَخبَرَہُ الشیءَ و بالشیءِ: کو کی اطلاع دینا، خبر دینا، کو سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَخبَرَہُ خُبُورَہُ: اس نے کسی کو اپنے پاس موجود چیز کی اطلاع و خبر دی۔ خابَرَہُ: سے باہم گفتگو کرنا اور بحث کرنا۔ تَخَبَّرَ الامرَ: سے اچھی طرح واقف ہونا۔ ۔ہ: سے خبر دریافت کرنا۔ تخابرا: باہم گفتگو کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ اِختَبَرَ الشیءَ: کی حقیقت جان لینا۔ اِستَخبَرَہُ: سے اچھی طرح واقف ہونا۔ الخُبر (مص): کسی چیز کا علم۔ الخَبَر و الخَبِر من الرجال: خبر کا جاننے والا۔ الخَبَر جمع اَخبار و اَخابیر: خبر۔ الاَخباریّ: مورخ، تاریخ نویس، خبر نویس۔ الخَبیر جمع خُبَراء: دانا، واقف، آگاہ۔ المَخبَر و المَخبُرة: کسی خبر یا تجربہ سے حاصل ہونے والی واقفیت و آگاہی، سنی ہوئی بات۔

۳۔ خَبَرَ ۔ خَبراً الارضَ: کھیتی کے لئے زمین جوتنا۔ خابَرَہُ: بٹائی پر کاشت کرنا۔ الخَبر و احد خَبرة جمع خُبور: کھیتی۔ الخَبیر جمع خُبَراء:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کسان، کھیتی۔

۴-خَبَرَ ـُ خَبْرًا الطعامَ: کھانے کو مرغن کرنا۔اِخْتَبَرَ لأھلہ: اپنے گھر والوں کے لئے کھانا لینا۔الخُبْرَۃ: سالن روٹی کے ساتھ کھائی جانے والی چیز۔ زیادہ ثرید۔ اہل وعیال کے لئے خریدی ہوئی خوراک۔ (کہاجاتا ہے: اجتمعوا علی خُبْرَتِہٖ: وہ اس کے کھانے پر جمع ہوئے۔) (ح): وہ بکری جس کو لوگ مختلف قیمتوں پر خرید کر آپس میں بانٹ لیں۔

۵-خابَرَہٗ: کی پرواکرنا۔

۶-الخَبْر واحد خَبْرَۃ جمع خُبُور: بڑا توشہ دان (ح) بہت دودھ دینے والی اونٹنی، پہاڑ میں پانی جمع ہونے کی جگہ (ن) بیری اور اراک کا درخت اور اس کے آس پاس کی گھاس۔الخِبْر: بڑا توشہ دان۔(ح) بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔الخَبِیر: اونٹ کے بال، گرے ہوئے بال، واحد خَبِیرَۃ جمع خَبائِر۔ الخَبْراء جمع خَبارَی و خَبارٍ و خَبْراوات: برا توشہ دان، بیری کے درخت اگانے والی زمین۔ الخَبار: نرم زمین، - واحد خَبارَۃ: جراثیم۔ الخابُور (ن): ایک قسم کا درخت۔راس العین اور فرات کے درمیان ایک ندی کا نام۔

○ خَبَرَ ـُ خُبْرًا و خِبْرَۃً ہٗ: کو آزمانا، جانچنا، کا امتحان کرنا (کسی مرکب کے) اجزا دریافت کرنا، کا تجربہ کرنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ رکھنا، کو تجربہ سے جاننا۔ —ہ/ب: کو اچھی طرح جاننا۔خَبُرَ ـُ ہ/ب: سے پوری طرح واقف ہونا۔خَبَّرَ ہ ب: کو کے بارے میں بتانا، مطلع کرنا، کو کی اطلاع دینا کو کی تجارتی اطلاعات دینا۔خابَرَہٗ: کو لکھنا، سے مخاطب ہونا، مدد کے لئے کے پاس جانا، سے اپیل کرنا سے تحریری رابطہ کرنا، سے گفت وشنید کرنا، سے شرائط کی بات چیت کرنا۔اَخْبَرَ ہ ب: کو کی اطلاع دینا، کے متعلق بتانا، کو کی خبر دینا، کو کی رپورٹ دینا، سے کچھ بیان کرنا، کو کچھ بتانا۔ تَخَبَّرَہٗ: سے پوچھنا۔تَخابَرَ: ایک دوسرے کو اطلاع دینا، ایک دوسرے کو مطلع رکھنا، ایک دوسرے سے خط وکتابت کرنا۔—مع فی: سے کے بارے میں گفت وشنید کرنا، بات چیت کرنا۔اِخْتَبَرَ ہٗ: کا گہرا مطالعہ کرنا، کا کھوج لگانا، کی تحقیق کرنا، کی چھان بین کرنا، کا سراغ لگانا کے بارے میں معلومات تلاش کرنا۔ ہ/ہ: کو آزمانا، کا امتحان لینا، کو جانچنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ کرنا۔ہ: کو تجربہ سے جاننا، کو اچھی طرح جاننا۔اِسْتَخْبَرَہ عن: سے کے بارے میں دریافت کرنا، سے کے بارے میں پوچھنا۔خَبَر جمع اَخبار: خبر، اطلاع، رپورٹ، پیغام، مکتوب، مراسلہ، خبر رسانی، اعلان، افواہ، کہانی، معاملہ، مُسْنَد، خبر (گرامر)، جمع: وقائع، تاریخ۔سالہ عن اخبارہ: سے کسی دوسرے شخص کے بارے میں پوچھنا۔دَخَلَ فی خبر کان یا کانَ فی خبرِ کانَ: ماضی سے متعلق ہوجانا ڈھلی ہوئی جوانی والا ہونا، پرانے نمونہ کا ہونا، موجود نہ رہنا۔خِبْرَۃ و خُبْر: تجربہ، واقفیت، علم، خَبِیر: کا تجربہ کار، سے واقف، اچھی طرح آگاہ، کا عالم۔الخَبِیر: اصل جاننے والا (اللہ تعالیٰ کی ایک صفت) جمع خُبَراء: ماہر، سپیشلسٹ۔خَبِیر الضرائب: ٹیکس کا ماہر، مشیر ٹیکس۔خابُور جمع خَوابِیر: کھونٹی، پن، کیل، میخ، کھونٹا، چوب، پھانہ، پچر، لوہے یا لکڑی کا پتلا ٹکڑا۔مَخْبَر: سمجھ، فہم، ذاتی، اصلی یا حقیقی مفہوم جمع مَخابِر: لیبارٹری۔مِخْبار جمع مَخابِیر: ٹیسٹ ٹیوب (test tube) مُخابَرَۃ جمع مُخابَرات: مراسلت، خط وکتابت (تحریری) اطلاع (ترتیب وار اشتہارات میں) (المُخابَرۃ ب: براہ مہربانی کو لکھیں، سے رابطہ کریں) نوٹس، اعلان، اشتہار، خبر، اطلاع، مراسلہ، رابطہ۔مُخابَرۃ تلیفونیہ: ٹیلی فون کال، ٹیلی فون پر گفتگو، بات چیت۔مُخابَرَۃ خارِجِیَّۃ: دور جگہ سے آنے والے ٹیلی فون پر بات چیت یا ٹیلی فون پر بلاوا۔ Long distance call مُخابَرۃ سِرِّیَّۃ: خفیہ سرکاری اعلان۔قَلَمُ المُخابَرات: دفتر یا محکمہ خفیہ اطلاعات Intelligence bureau۔المُخابَرۃ حُضُورِیًّا (ترتیب وار اشتہار میں): ذاتی طور پر درخواست دیں۔اِخْبار: اعلان، اطلاع، مراسلت، نوٹ۔ پیغام، رپورٹ، بالواسطہ مباحثہ، بیان یا گفتگو۔اِخْبارِی: خبروں کا، معلومات کا یا کے متعلق۔تَخابُر: گفت وشنید، مراسلت، خط وکتابت۔اِخْتِبار جمع اختبارات: مطالعہ، گہرا مطالعہ، امتحان، جانچ پڑتال، آزمائش، جائزہ، امتحان کی ایک شق، تجربہ، (سائنسی) تحقیق، ریسرچ، عملی تجربہ، عملی واقفیت، عملی تجربہ۔ اختبارات تَحْرِیرِیَّۃ: تحریری امتحان کی شقیں۔ اختبارِ ذاتی: ذاتی تجربہ۔علی سبیلِ الاختبار: تجرباتی، طور پر۔تحتَ الاختبار: آزمائشی، تجربے کے لئے، بطور آزمائش۔حُقُول الاختبار: تجرباتی میدان، تجربات کے میدان۔اِخْتِبارِی: تجرباتی، مشاہداتی۔اِخْتِبارِیۃ: تجربہ کاری، تجربیت۔اِسْتِخْبار جمع اِسْتِخْبارات: چھان بین، تحقیقات، تفتیش۔ دائرۃ الاستخبارات: [illegible] اطلاعات۔ مُخْبِر جمع مُخْبِرُون: رپورٹر، سراغ رساں، خفیہ تفتیش کرنے والا۔ مجرموں کو پکڑنے والا، خفیہ پولیس کا ملازم۔مُخْتَبَر جمع مُخْتَبَرات: لیبارٹری۔

خبز: ۱-خَبَزَ ـِ خَبْزًا الخُبْزَ: روٹی پکانا۔القومَ: کو روٹی کھلانا۔کہا جاتا ہے: خبزتھم و تمرتُھُمْ: میں نے انہیں روٹی اور کھجور کھلائی۔اِخْتَبَزَ الخبزَ: روٹی پکانا۔الخُبْز واحد خُبْزَۃ: روٹی۔خُبْزُ الغراب (ن): ایک قسم کی بوٹی جس میں گول گول ٹکیں روٹی کے مانند نکلتی ہیں۔الخابِز: روٹی والا۔ الخَبِیز: پکا ہوا، ثرید۔الخَبّاز: نانبائی۔الخِبازَۃ: نانبائی کا پیشہ۔

۲- خَبَزَ ـِ خَبْزًا و تَخَبَّزَہٗ: کو مارنا۔

۳- اِنْخَبَزَ المکانُ: جگہ کا پست ہونا۔الخَبْز: پست جگہ، نشیبی زمین۔

۴-الخَبّازَی و الخُبّاز و الخُبَّیْزَۃ و الخُبّازَۃ (ن): خطمی، خبازی (ایک جنگلی پودا)۔

○ خَبّاز جمع خَبّازُون و خبازۃ: بھٹیارہ نانبائی، بیکری والا۔مَخْبَز و مَخْبَزَۃ جمع مَخابِز: بیکری، تنور۔

خبس: ۱-خَبَسَ ـِ خَبْسًا و اِخْتَبَسَ و تَخَبَّسَ الشیءَ: کو لے لینا، حاصل کرنا، قابو میں کرنا، مال غنیمت کے طور پر لینا۔الخابِس و الخَبُوس والخَبّاس و المُخْتَبِس: شیر۔الخبلسۃ و الخُباساء: غنیمت۔

۲-خَبَسَ ـِ خَبْسًا فُلانًا حقَّہٗ: پر ظلم کرنا، اس کا حق چھین لینا۔اِخْتَبَسَ مالَہٗ: کا مال جاتا رہنا۔الخَبُوس: ظلم کرنے والا۔الخُباسۃ: ظلم۔

خبش: خَبَشَ ـِ خَبْشًا و تَخَبَّشَ الاشیاءَ من ھا ھُنا و ھا ھُنا: ادھر ادھر سے چیزیں لے کر جمع کرنا۔ الخَبّاش: کمانے والا، حاصل کرنے والا، قابض، مالک۔خُباشات العیش: زندگی کی ضروریات جیسے کھانا وغیرہ۔الناس: مختلف قبائل کی جماعت۔

خبص: خَبَصَ ـِ خَبْصًا الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔خَبَّصَ و تَخَبَّصَ و اِخْتَبَصَ: کھجور بالائی اور میدہ کا حلوہ بنانا۔اِخْتَبَصَ الرجلُ: کھجور بالائی اور میدہ کا حلوہ لینا یا کھانا۔الخَبِیص و الخَبِیصَۃ (ط): کھجور بالائی اور میدہ سے تیار کیا ہوا حلوہ یا مٹھائی۔المِخْبَصَۃ: کڑاہی میں (خبیص) حلوہ کو الٹ پلٹ کرنے کا چمچہ۔

○ خَبَصَ ـِ خَبْصًا ہ ب: کو سے ملانا، کی سے آمیزش کرنا۔خَبَّصَ ہ: کو ملانا، گڈمڈ کرنا، مخلوط کرنا، خلط ملط

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا، کو بگاڑ ڈالنا، کاستیاناس کرنا۔ خَبِیص و خبیصَة: معجون مرکب، دلیا، بھرتا، کھچڑی، خَبِیْصَة: جیلی جیسی مٹھائی۔ خَبّاص: ابتری پیدا کرنے والا، کام چوپٹ کرنے والا، کام کاستیاناس کرنے والا۔ غیر ذمہ دار ہلکے ذہن کا شخص۔

خبط: ا۔ خَبَطَ - خَبْطًا ہٗ: کو زور سے مارنا۔ الشجرةَ: درخت کے پتے جھاڑنا۔ تَخَبَّطَ ہ: کو زور سے مارنا۔ اِخْتَبَطَ ہٗ: کو زور سے مارنا۔ الخَبَط (ن): درخت کے جھاڑے ہوئے پتے۔ الخَبِیط: دہی جس میں تازہ دودھ ڈال کر ایک دوسرے میں ملا دیا گیا ہو۔ المِخْبَط و المِخْبَطَة جمع مَخَابِط و المِخْبَاط جمع مَخَابِیط: دھوبی کی موگری، پتے جھاڑنے کا ڈنڈا۔

۲۔ خَبَطَ ـِ خَبْطًا الشیءَ: کو سخت روندنا۔ اللیلَ: رات کو بے راہ چلنا۔ ہٗ بِخَیرٍ: کو بغیر جان پہچان کے خبر دینا۔ تَخَبَّطَ الشیءَ: کو روندنا۔ الخَابِط (فا) (بقول الحریری) نِضْوِ سُرًى خابطِ لیلٍ أَلْیَلٍ: بے توجہی سے چلنے والا کہا جاتا ہے۔ انہ یخبط خَبْطَ عشواءَ: وہ اندھی اونٹنی کی طرح پاؤں مارتا ہے یعنی بغیر غور وفکر کے کام کرتا ہے۔ ما ادری ایُّ خابطِ لیلٍ هو: میں نہیں جانتا کہ وہ رات کو آنے والا اجنبی کون ہے۔ الخَبِیط: وہ حوض جس کو اونٹوں نے پاؤں مار کر گرا دیا ہو۔ الخَبُوط و الخَبِیط والأَخْبَط من الخیل: زمین پر پاؤں مارنے والا گھوڑا۔

۳۔ خَبَطَ ـِ خَبْطًا الشیطانُ زیداً و تَخَبَّطَ الشیطانُ زیداً: شیطان کا زید کو نقصان پہنچانا۔ الخَبْطَة جمع خِبَط و خَبَط: (تَخَبَّطُ الشیطان سے مشتق ہے) شیطان کا آدمی کو خبطی و دیوانہ کر دینا۔ الخُبَاط: پاگل پن۔

۴۔ خَبَطَ ـِ خَبَطَ ـِ خَبْطاً البعیرَ: اونٹ کے چہرے کی چوڑائی میں لمبا داغ لگانا۔ الخِبَاط جمع خُبُط: چہرے کی چوڑائی میں لمبا نشان۔

۵۔ خُبِطَ: کو زکام ہونا۔ صفت مَخْبُوط۔ الخَبْطَة جمع خِبَط و خُبَط: زکام۔

۶۔ تَخَبَّطَتِ البلادُ: ملک میں فتنہ وفساد اور لوٹ مار مچنا۔ اِخْتَبَطَتِ البلاد: ملک میں فتنہ وفساد مچنا۔

۷۔ الخَبْطَة جمع خِبَط و خُبَط: تالاب یا برتن میں بچا کھچا پانی۔ مشک میں باقی بچنے والا دودھ، تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے: علیه خَبْطَةٌ من الجَمَال: اس پر خوبصورتی کی جھلک ہے۔ الخِبْطَة جمع خِبَط کسی چیز کا کچھ حصہ، ٹکڑا۔ (کہا جاتا ہے: کان ذلك بعدَ خِبْطَةٍ من اللیل: یہ رات کے کچھ حصہ گزرنے کے بعد ہوا)۔ من الماء: پانی کا گھونٹ۔ الخُبَاط: گرد و غبار۔

○ خَبَطَ ـِ خَبْطًا ہ: کو کسی چیز پر مارنا، سے ٹکرانا کو کھٹکھٹانا، کو آہستہ سے مارنا۔ -الباب: دروازہ، کھٹکھٹانا، دروازے پر دستک دینا۔ الارضَ: جانور کا زمین پر پاؤں زور سے مارنا۔ یخبط خبطَ عَشْوَاءَ: وہ بے سوچے سمجھے اندھا دھند کام کرتا ہے۔ تَخَبَّطَ ہ: کو مارنا، ضرب لگانا، گرانا، (کے بازی میں) پچھاڑ دینا، کسی ضرب سے بے ہوش یا وقتی طور پر ناکارہ کر دینا۔ - ہ: سے ٹکرانا سے ٹکر ہونا، ٹھوکر کھانا، -: کھو جانا، گم ہو جانا، بھٹک جانا، راستہ بھول جانا، ادھر ادھر پھرنا، مارے مارے پھرنا، ٹامک ٹوے مارنا، ٹٹولنا جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، مدافعت کرنا مقاومت کرنا، (گھوڑے کا) سرپٹ دوڑنا، زمین پر کھٹ کھٹ کرتے جانا۔ اِخْتَبَطَ: (ب) ٹکرانا، جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، مدافعت کرنا، مقاومت کرنا، ٹامک ٹوئیے مارنا، کھو جانا، گم ہو جانا بھٹکنا، راستہ بھول جانا، ہلنا، حرکت کرنا، کھلبلی پڑنا، افراتفری پڑنا۔ خَبْطَة: ضرب، دستک، کھٹکھٹاہٹ، شور، غل، شور و غل، غوغا، شور و غوغا، غل غپاڑہ، ہنگامہ، گڑبڑ۔ خُبَاط: پاگلن پن، دیوانگی، جنون، دماغی خلل۔

خبع: خَبَعَ ـَ خَبْعًا فی المکان: جگہ میں داخل ہونا۔ - الشیءَ: کو چھپانا۔ خَبَأَہ کے معنی میں آتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے۔ جاریةٌ خُبَعَةٌ طُلَعَةٌ: وہ لڑکی جو کبھی اپنے آپ کو چھپائے اور کبھی ظاہر کرے۔ -- خُبُوعًا الصبیُّ: بچہ کا روتے ہوئے سانس گھونٹ لینا۔

خبق: خَبَقَ ـِ خَبْقًا: گوز کرنا۔ ہٗ: کو اپنے سے حقیر جاننا۔ تَخَبَّقَ الشیءُ: بلند ہونا۔ الخِبَقّ: بہت کودنے والا آدمی، تیز رفتار گھوڑا۔

خبل: ا۔ خَبَلَ ـُ خَبْلًا و خَبَّلَ ہٗ: کو خراب کرنا، بگاڑنا۔ -ہٗ الحزنُ اور الدهرُ اولداءُ: غم، زمانے یا بیماری کا کسی کی عقل یا عضو کو خراب کر دینا۔ - یَدَہٗ: کے ہاتھ کو شل (خشک) کرنا۔ خَبِلَ ـَ خَبَلاً و خَبَالاً: پاگل ہونا صفت: خَبِل و اَخْبَل: -تِ الیدُ: ہاتھ کا شل ہو جانا، خشک یا بیکار ہو جانا۔ اِخْتَبَلَ ہُ الحزنُ او الداءُ: غم یا بیماری کا کسی کی عقل کو خراب کر دینا۔ الخَبْل و الخَبَل جمع خُبُول: اعضاء کی خرابی، فالج، ہاتھ پاؤں کی کاٹ۔ الخَبْل من الدهر: بگڑا ہوا زمانہ۔ الخَبَال: فساد، بگاڑ، مشقت، مصیبت (کہا جاتا ہے: هو خَبَالٌ علی اهله: وہ اپنے اہل پر بوجھ ہے)۔ نقص، ہلاکت، زہر قاتل۔ الخَابِل: فسادی مفسد، شیطان، جن کہا جاتا ہے۔ مَسَّہُ الخابلُ: اس کو جن نے پاگل کر دیا۔ الخابلان: رات، دن۔ مُخَبَّل (ال کے بغیر زمانہ کا ایک نام۔ المُخَبَّل: مجنوں، پاگل، تھڑدلا۔

۲۔ خَبَلَ ـُ خَبْلًا ہٗ: کو گرویدہ کرنا۔ خَبَلَ الحبُّ قَلْبَهُ: محبت نے اسے گرویدہ کر دیا۔ الخَبْل: دلفریبی، مسحوری، گرویدگی۔

۳۔ خَبَلَ ـُ خَبْلاً و خَبَّلَ ہٗ عن کذا: کو سے روکنا، منع کرنا کہا جاتا ہے۔ خَبَلَ عن فعل ابیه: اس نے اپنے باپ کے فعل سے کوتاہی کی۔ المُخَبَّل: درد کے باعث اچھی طرح نہ چل سکنے والا۔

۴۔ اِسْتَخْبَلَ ہٗ الابلَ: سے اونٹ عاریۃً لینا تاکہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ الخَبْل: قرض، عاریۃً لینا۔

۵۔ الخَبَل (ح): ایک پرندہ جس کی آواز الو جیسی ہوتی ہے۔ بعض بڑے امراء کا لقب۔

○ خَبَلَ ـُ خَبْلًا ہ: کو گڈمڈ کرنا، درہم کرنا، خلط ملط کرنا، چوپٹ کرنا، کا ستیاناس کرنا، کو پیچیدہ کرنا، الجھانا۔ -ہ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کے لئے معذوری کا باعث ہونا، کو روکے رکھنا۔ کے حواس مختل کر دینا، کو گھبرا دینا، چکرا دینا، کے دماغ کو پریشان کر دینا، کے ہوش اڑا دینا، کو پاگل بنا دینا۔ خَبِلَ ـَ خَبَلاً و خَبَالاً: بوکھلا جانا، دماغی طور پر پریشان ہو جانا، سودائی ہو جانا، پاگل ہو جانا، دیوانہ ہو جانا۔ خَبَّلَ ہ/ہ: کو گڈمڈ کر دینا، درہم برہم کر دینا، خلط ملط کر دینا۔ -ہ: کو پیچیدہ کرنا، الجھانا، چوپٹ کرنا، کا ستیاناس کرنا بے ترتیب کر دینا۔ -ہ: کے حوش اڑا دینا، کو پاگل کر دینا۔ اِخْتَبَلَ: (دماغ کا) گڈمڈ ہو جانا، گھبرا جانا۔ خَبْل: بوکھلاہٹ، گڑبڑ، ابتری، پریشانی، دماغی خرابی، پاگل پن۔ خَبِل: پاگل، سودائی، کمزور دماغ والا، بیوقوف۔ اَخْبَل: پاگل، سودائی، کمزور دماغ والا، بیوقوف۔ اِخْتِبَال: دماغی خرابی۔ مَخْبُول: پاگل، سودائی، کند ذہن، غبی، بیوقوف، احمق، گدھا، دیوانہ، پریشان۔ مُخَبَّل: پریشان، بوکھلایا ہوا، چکرایا ہوا، حیران پریشان، حیران، دہشت زدہ، گڈمڈ، الجھا ہوا، غیر واضح، غیر مربوط۔

خبن: ا۔ خَبَنَ ـِ خَبْنًا و خِبَانًا الثوبَ: کپڑے کو موڑ کر سینا۔ -و اَخْبَنَ الطعامَ: کھانے کو کپڑے کی تہ میں چھپانا۔ اِخْتَبَنَ الشیءَ: کو کپڑے کی تہ میں پکڑنا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لینا۔ الخُبْنَة جمع خُبَن: کپڑے کی تہ، تہ کردہ دامن۔ خوراک جو کپڑوں کی تہ میں لی جائے۔ رجلٌ خُبُنٌ: سمٹے ہوئے اعضاء والا آدمی۔

۲۔ خَبَنَ ـِ خَبْنًا و خِبانًا الشاعرُ: شاعر کا اپنے شعروں میں خبن استعمال کرنا۔ الخَبْن فی الشِّعر: دوسرے ساکن جزء کا حذف۔ جیسے فاعلن میں الف حذف کر کے اسے فَعِلُن کر دینا۔

خبا: خَبَا ـُ خَبْوًا و خُبُوًّات النارُ او الحِدّةُ: آگ یا حرارت کا ٹھنڈا ہونا، مندا پڑنا، بجھنا۔ کہا جاتا ہے: خبا لهبُهُ: اس کے غصہ کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، فرو ہوا۔ اَخْبَا النارَ: آگ کو بجھانا۔

○ خَبَا ـُ خَبْوًا و خُبُوًّا: آگ کا بجھنا، بجھ جانا۔

خبی: خَبَی الشیءَ: بمعنی خَبَاہ۔ (کو چھپانا)۔ خَبَّی و اَخْبَی و تَخَبَّی الخِباءَ: خیمہ نصب کرنا، اِسْتَخْبَی الخباءَ: خیمہ نصب کرنا، خیمہ میں داخل ہونا۔ الخِباء جمع اَخْبِیَة: اون یا اونٹ کے بالوں کا خیمہ، بالی میں جو یا گیہوں کے دانے کا چھلکا، شگوفے کا غلاف۔

○ خِبْیَارِی: سٹرجن یا دوسری بڑی مچھلی کے انڈے جو خاص طور پر تیار کر کے، کھانے کے شروع میں کھائے جاتے ہیں۔

خت: خَتَّ ـُ خَتًّا السِنانَ الیه: کو پے در پے نیزے مارنا۔ اَخَتَّ الرجلُ: باپ کے ذکر پر شرمندہ ہونا، شرم کرنا۔ ـہُ: کا حصہ کم کرنا۔ الـخَتَت: بدن کی سستی۔ الخَتِیت: خسیس، ناقص۔

ختا: خَتَاَ ـَ خَتْاً ہُ عن کذا: کو سے روکنا، منع کرنا۔ اِخْتَتَاَ: کا خوف وغیرہ سے رنگ متغیر ہونا۔ ـمن فلان: سے شرم، ڈر یا ذلت کے سبب چھپنا۔ ـہُ: کو دھوکا دینا، ـالشیءَ: کو اچک لینا۔ مَفَازَةٌ مُخْتَتِنَةٌ: بیابان جس میں راستہ نہ ملتا ہو۔

ختر: ا۔ خَتَرَ ـِ خَتْرًا ہُ: سے بری طرح بیوفائی کرنا۔ صفت: خاتِر و خَتَّار و خِتِّیر و خَتُور و خِتِّیر۔

۲۔ خَتَرَ ـُ خَتْرًا و خُتُورًا ت نفسُهُ: کا جی متلانا، بگڑنا۔ خَتِرَ ـَ خَتَرًا: زہر یا دوا پینے سے سن اور بے حس ہو جانا۔ خَتَّرَہُ الشرابُ: شراب کا کسی کے نفس کو خراب کر دینا اور ڈھیلا کر کے چھوڑنا۔ تَخَتَّرَ: سست ہونا، ڈھیلا ہونا بیماری وغیرہ کی وجہ سے کسی کے بدن کا سست ہونا۔

۳۔ خَتْرَبَ ہُ: کو کاٹ ڈالنا، پارہ پارہ کر دینا۔

۴۔ خَتْرَم خَتْرَمَةً: گھبراہٹ یا بات نہ کر سکنے کی وجہ سے خاموش رہنا۔

○ خَتَرَ ـِ خَتْرًا ہ: کو دغا دینا، سے غداری کرنا، سے بیوفائی کرنا، کو دھوکا دینا۔ خَتْر: بیوفائی، اعتماد کی خلاف ورزی، غداری، دغا، افشائے راز، دھوکا، فریب۔ خَتَّار: بے وفا، نمک حرام، دغاباز، عیار، دھوکے باز، فریبی۔ خاتِر: بیوفا، غدار، دغاباز، نمک حرام۔

ختع: خَتَعَ ـَ خَتْعًا و خُتُوعًا الدلیلُ بالقوم: راہبر کا لوگوں کی اندھیرے میں رہبری کرنا۔ ـعلی القوم: لوگوں کے پاس اچانک آ جانا۔ ـ وانْخَتَعَ فی الارض: زمین میں دور تک نکل جانا۔ الـخَتِع والخُتَع: ماہر رہنما۔ الخَوْتَع: ماہر رہنما۔ (ح) خرگوش کا بچہ۔ الخِتاع: چمڑے کا دستانہ جو باز پالنے والے باز کے پنجوں کی خراش کے خوف سے پہنتے ہیں۔

ختل: ا۔ خَتَلَ ـِ خَتْلاً و خَتَلانًا و خاتَلَ مُخاتَلَةً ہُ: کو دھوکا دینا۔ کہا جاتا ہے: خاتَلَ الصیادُ: شکاری کا دبے پاؤں چلنا کہ شکار کو آہٹ محسوس نہ ہو۔ صفت: خاتِل و خَتُول۔ تَخاتَلوا: ایک دوسرے کو فریب دینا اِخْتَتَلَ الرجلَ: کو دھوکا دینا۔ الخَتَّال مونث خَتَّالَة: بڑا دھوکے باز، فریبی۔

۲۔ اِخْتَتَلَ لأسرارِ القوم: لوگوں کی راز کی باتوں کو چوری سے سننا۔ الخِتْل: چھپنے کی جگہ، خرگوش کا بل۔

۳۔ الخَوْتَل: ظریف، دانا آدمی۔

○ خَتَلَ ـِ خَتْلًا و خَتَلانًا ہ: کو دھوکا دینا، فریب دینا۔ کے ساتھ دورخی سے کام لینا۔ کو جل دینا، خاتَلَ ہ: بمعنی خَتَلَہ۔ ـ: منافقت سے پیش آنا، منافقانہ رویہ اختیار کرنا۔ اِخْتَتَلَ: بمعنی خَتَلَہ۔ خَتْل و مُخاتَلَة: دھوکا، فریب، دغا، دورخی، فریب کاری، جل ٹھگی، مُخاتِل: دھوکے باز، فریبی مکار، عیار، چالباز، حیلہ ساز، روباہ صفت، متفنی۔

ختم: ا۔ خَتَمَ ـِ خَتْمًا و خِتامًا الشیءَ و علیه: پر مہر لگانا۔ خَتَّمَ: اچھی طرح ختم کرنا، مہر لگانا۔ ـہُ: کو انگوٹھی پہنانا۔ تَخَتَّمَ الخاتمَ و به: انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہننا۔ کہا جاتا ہے تَخَتَّمَ بالعقِیق: اس نے عقیق جڑی انگوٹھی پہنی۔ (عقیق سرخ رنگ کا موتی) الخاتام جمع خَواتِیم: انگوٹھی خواہ اس پر پہننے والا کا نام کندہ ہو یا نہ۔ مہر۔ الخاتَم: مہر۔ والخاتِم جمع خَواتِم و خُتُم: انگوٹھی، مہر، جس سے ختم کیا جائے۔ الخَتَم: انگوٹھی، مہر۔ الخَتَم: مہر، جس سے ختم کیا جائے۔ الخِتام جمع خُتُم: ہر وہ چیز جس سے کسی چیز پر مہر لگائی جائے۔

۲۔ [illegible]

marfat.com

حاصل کرنا، ـالکتاب: پوری کتاب پڑھ جانا۔ اللّٰهُ له بالخیر: کا اچھا انجام کرنا۔ اُخْتَمَ الکتابُ: کتاب کا خاتمہ تک پہنچنا۔ اِخْتَتَمَ ہُ: کو پورا کرنا۔ الخاتَم والخاتِم جمع خَواتِم و خُتُم: ہر چیز کا انجام۔ الخاتِمة جمع خَواتِیم و خاتِمات: الخاتم کا مونث: انجام، نتیجہ، اخیر۔

۳۔ خَتَمَ ـِ خَتْمًا و خِتامًا علی قلبه: کو بے سمجھ بنانا۔ کہا جاتا ہے: خَتَمَ علیك بابهُ: سے اعراض کرنا۔ الاناءَ: برتن کو مٹی وغیرہ سے بند کرنا۔ تَخَتَّمَ بامرہ: اپنے معاملہ کو چھپانا۔ عنه: سے غافل بنکر چپ رہنا۔ الخِتام جمع: خُتُم: مٹی۔

۴۔ خَتَمَ ـِ خَتْمًا و خِتامًا الزرعَ و علیه: کھیتی کو پہلی بار سیراب کرنا۔

۵۔ تَخَتَّمَ: عمامہ باندھنا۔ کہا جاتا ہے: تَخَتَّمَ بِعمامتِه: اس نے اپنا عمامہ باندھا۔

۶۔ الخَتْم: شہد۔ الخاتَم و الخاتِم جمع خَواتِم و خُتُم: گدی کا گڑھا۔ ٹانگوں کی تھوڑی سفیدی۔ المُخَتَّم من الخیل: وہ گھوڑا جس کی ٹانگوں میں تھوڑی سی سفیدی ہو۔

○ خَتَمَ ـِ خَتْمًا و خِتامًا ہ: پر مہر لگانا، کو مہر یا انگوٹھی کی مہر دینا، پر اسٹامپ یا اسٹام لگانا، سٹامپ سے نقش لگانا، کو بند کرنا، کو غیر اثر پذیر بنانا، ناقابل رسائی یا پہنچ سے باہر بنانا۔ ـعلی القلوب: (اللہ تعالیٰ کا) دلوں کو غیر اثر پذیر بنانا۔ ـہ: چھاپا اپنی مہر لگانا، کو ختم کرنا، خاتمے پر پہنچانا، مکمل کرنا (زخم) کو بند کرنا، صحت یاب کرنا، مندمل کرنا۔ تَخَتَّمَ ب: (انگوٹھی) پہننا، ـبالذهب: سونے کی انگوٹھی پہننا۔ اِخْتَتَمَ ہ: کو ختم کرنا۔ خَتْم: مہر لگانا جمع اَخْتام و خُتُوم: مہر، انگوٹھی کی مہر، مہر کا ٹھپا، اسٹامپ، ٹکٹ، اسٹامپ کا ٹھپا۔ بمعنی خَتْمه: قرآن مجید (کی تلاوت) کا ختم۔ ختمُ البرید: ڈاک کی مہر، ڈاکخانے کی مہر، ڈاک خانے کا ٹھپا۔ شمع الختم (مہر لگانے کی) لاکھ خَتْمة جمع ختمات: ختم قرآن (خصوصاً کسی تقریب میں)۔ خاتَم و خاتِم جمع خَواتِم: مہر، انگوٹھی، انگوٹھی کی مہر، سٹامپ۔ خاتم الزواج: شادی کی انگوٹھی۔ خاتَمُ النبیین: آخری نبی (رسول کریمؐ) خاتام جمع خَواتِیم: مہر کی انگوٹھی، انگوٹھی۔ خِتام: لاکھ، انجام خاتمہ، اختتام۔ فی الخِتام: آخرکار، انجام کار بالآخر، خِتامِی: آخری، کلمةٌ خِتامِیّة: آخری تقریر، اختتامی تقریر۔ اِخْتِتام: خاتمہ، انجام اخیر، آخر آخری حصہ، اختتام۔ خاتِمة جمع خَواتِم و

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

خَوَاتِيم: آخر، خاتمہ، انجام، آخری حصہ، اختتام، کتاب کا خاتمہ، خَوَاتِيم: آخری مرحلہ یا منزل۔ مُخَتَّم: انگوٹھی یا انگوٹھیاں پہنا ہو (ہاتھ) مُخْتَمٌ: آخر، اخیر، انجام، خاتمہ، آخری حصہ، اختتام۔

ختن ۱۔ خَتَنَ ـِ خَتْنًا الشيءَ: کو کاٹنا۔ ـ الصبيَّ: بچہ کا ختنہ کرنا۔ بچہ جس کا ختنہ کیا گیا ہو: خَتِين و مَخْتُون۔ اِخْتَتَنَ الصبيُّ: بچہ کا ختنہ شدہ ہونا۔ الخِتَان ختنہ۔ الخِتَانَة: ختنہ، ختنہ کرنے والے کا پیشہ۔

۲۔ خَتَنَ ـُ خُتُونًا و خُتُونَةً و خَاتَنَ هُ: کو داماد بنانا۔ الخَتَن جمع أَخْتَان: عورت کی طرف سے رشتہ دار جیسے سسر، سالا، داماد۔ الخَتَنَة: الخَتَن کا مؤنث۔ ساس۔

۳۔ خَتَنَ ـِ خَتْنًا الرجلَ: کو دھوکا دینا۔ خَاتَنَ الرجلَ: کو دھوکا دینا۔

۴۔ الخَاتُون جمع خَوَاتِين: شریف زادی، بیگم۔ المَخْتُون من الأعوام: خشک سال۔

ختا: خَتَا يَخْتُو خَتْوًا: غم یا بیماری سے شکستہ دل ہونا۔ ـ هُ: کو کسی بات سے روکنا۔ اخْتَى المتاعَ: کپڑوں کو ایک ایک کر کے فروخت کرنا۔ اِخْتَتَى اِخْتِتَاءً: غم یا بیماری سے شکستہ دل ہونا۔

خث: خَثَّ الشيءَ: کو جمع کرنا، کی اصلاح کرنا۔ اِخْتَثَّ: شرم کرنا۔ الخُثّ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ یا پانی کے اوپر کی خشک شدہ کائی۔ الخُثَّة و الخَثَّة: آگ سلگانے کے لئے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا گٹھا۔

خثر: ۱۔ خَثَرَ ـُ خَثْرًا و خُثُورًا و خَثَرَانًا خَثِرَ ـَ خَثَرًا و خَثُرَ ـُ خَثَارَةً و خُثُورَةً و تَخَثَّرَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا، دہی بننا صفت: خَاثِر۔ أَخْثَرَ الزبدَ: مکھن کو بغیر پگھلائے چھوڑ دینا۔ خَثَّرَ و أَخْثَرَ اللبنَ: دودھ کو گاڑھا کرنا، دہی بنانا۔ ایک ضرب المثل ہے۔ مايدري أيُخْثِر ام يُذِيب: وہ اپنے کام میں متردد ہے، نہیں جانتا کہ کرے یا نہ کرے۔ الخَاثِر من اللبن وغیرہ: گاڑھا دودھ وغیرہ۔ کہا جاتا ہے: اِسْتَيْقَظ فلانٌ خاثِرَ النفس: فلاں شخص بیدار ہوا تو اس کی طبیعت بوجھل، سست اور بدمزہ تھی۔ الخُثَارة: بچا ہوا گاڑھا گاڑھا دودھ۔ کہا جاتا ہے: ذهب صفوهُ و بقيت خُثارتُه: اس کا صاف اور خالص حصہ ختم ہو گیا اور تلچھٹ باقی رہ گئی۔

۲۔ خَثَرَ ـِ خَثْرًا ات نفسُ الرجل: کا جی متلانا، مضطرب ہونا۔

۳۔ الخَاثِرَة: جماعت۔ الخُثار: دسترخوان پر بچی کھچی چیزیں۔ الخُثارة: چیز کا بقیہ۔

○ خَثَرَ ـُ و خَثِرَ ـَ: ٹھوس ہو جانا، گاڑھا ہو جانا، ٹھوس بننا، جمنا، موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، لیس دار ہونا نیم سیال ہونا، منجمد ہونا، جم جانا، دہی جمنا۔ خَثَّرَ و أَخْثَرَ هُ: (سیال چیز) کو موٹا کرنا، گاڑھا کرنا، (دودھ) کو دہی بنانا۔ تَخَثَّرَ: بمعنی خَثَرَ و خَثِر، خَثْرَة: انجماد خون (طب) خُثَار: تلچھٹ، پھین، میل، پھپھونڈی، فضلہ، تیل تنبولی، نیچ ذات کے لوگ بھیڑ، انبوہ۔ خُثَارَة: تلچھٹ، گاد، دُرد۔ تَخَثُّر: انجماد، جماؤ۔ تَخَثُّر في المخّ: دماغ میں انجماد خون۔ خَاثِر: گاڑھا، جما ہوا۔ لیس دار، جس پر لیس دار تہہ جم گئی ہو، دہی بنا ہوا، منجمد، سخت، ڈلا بنا ہوا، تودا بنا ہوا، گاڑھا کیا ہوا، دہی، مُخَثَّر: موٹا کیا ہوا، گاڑھا کیا ہوا، جمایا ہوا، دہی بنایا ہوا۔ چپچپا، لباب دار، لیس دار، جس پر لیس دار تہہ جم گئی ہو۔ ڈلا بنا ہوا، تودا بنا ہوا، منجمد۔

خشع: تَخَثْعَمَ: خون آلود ہونا۔ الخَثْعَمَة: جسم کا خون آلود ہونا یا اکٹھے ہو کر لوگوں کا جانور کو ذبح کرنا اور مل جل کر کھانا پھر اس جانور کے خون میں خوشبو ملا کر ہاتھ رنگنا اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ کرنا۔ الخَثْعَم و المُخَثْعَم (ح): شیر۔

خثل: الخَثْلَة: موٹی عورت۔ و الخَثَلَة من البطن (ع): پیڑو۔ کہا جاتا ہے: طعنه في خثلةبطنه: اس نے اس کے پیڑو میں نیزہ مارا۔

خثم: ۱۔ خَثَمَ ـُ خَثْمًا: چوڑی یا موٹی ناک والا ہونا صفت: خَثِم و أَخْثَم: ـ الْفَهُ: کی ناک کو کچل دینا۔ خَثَّمَ الشيءَ: کو چوڑا کرنا۔ الخُثْمَة: ناک کی چوڑائی۔ یا موٹائی۔

۲۔ خَثِمَ ـَ خَثَمَاتِ اخلافُ الناقة: اونٹنی کے تھنوں کا بند ہونا۔

خجّ: خَجَّ ـُ خَجًّا هُ: کو ہٹانا، دفع کرنا ـ برجلهِ: پاؤں سے خاک اڑانا۔ ـ بسلحه: پاخانہ کرنا۔ ـ الحَطَبَ: لکڑی پھاڑنا، چیرنا۔ ساعدُهُ: کی کلائی کا گٹھا ہوا ہونا۔ اِخْتَجَّ الجملُ: اونٹ کا پیچ کھاتے ہوئے جلد چلنا۔ الخَجُوج من الرياح: تیزی سے گزرنے والی یا چلتے ہوئے چکر دار آندھی۔

خجأ: خجأ ـَ خَجْأً الرجلُ: پیچھے ہٹنا، ذلیل ہونا۔ ـ الليلُ: رات کا اختتام پر پہنچنا۔ ـ هُ: کو مارنا، خَجِيءَ ـَ خَجَأً: شرم کرنا۔ أَخْجَأَهُ: سے سوال میں اصرار کرنا، تَخَاجَأَ: دیر لگانا۔ الخَجَأَة: موٹا اور سست، احمق۔

خجف: الخَجْف و الخَجِيف: اوچھا پن۔

خجل: ۱۔ خَجِلَ ـَ خَجَلًا: شرم و حیا سے مضطرب ہونا۔ صفت: خَجِل و خَجْلان۔ ـ بامره: اپنے معاملہ میں مشتبہ ہونا۔ ـ البعيرُ بالحمل: پر بوجھ کا بھاری ہونا۔ ـ من كذا: سے زچ ہونا۔ ـ في طلب الرزق: رزق طلبی میں سست ہونا۔ خَجَّلَ و أَخْجَلَ هُ: کو شرمندہ کرنا۔ الخجل (مص): حیا، شرم۔

۲۔ خَجِلَ ـَ خَجَلًا الثوبُ: کپڑے کے نیچے کے حصہ کا بہت پھٹا ہوا ہونا اور فراخ ہونا۔ صفت: خَجِل، ـ النباتُ: نباتات کا زیادہ اور گنجان ہونا صفت خَجِل أَخْجَلَ النباتُ: نباتات لمبا اور گنجان ہونا۔

○ خَجِلَ ـَ خَجَلًا: گھبرا جانا، پریشان ہونا۔ ـ من: کسی چیز سے خفیف، پریشان یا شرمندہ ہونا، سے شرمسار ہونا، شرمانا۔ شرم محسوس کرنا، شرمندہ ہونا، کے سامنے یا کسی چیز کے بارے میں گھبراہٹ یا پریشانی محسوس کرنا۔ خَجَّلَ و أَخْجَلَ ہ: کو شرمندہ کرنا۔ غیرت دلانا، ذلیل کرنا، خفیف کرنا، کو گھبرا دینا، پریشان کرنا، شرمسار کرنا۔ خَجَل من: پرشرم، شرمندگی، ندامت، ذلت، رسوائی، شرمساری۔ شرم، لاج، حیا، شرمیلا پن، لحاظ، جھجک، حجاب اندیشہ، بزدلی، وحشت، بھڑک، خجالت، شرمساری، شرم کی بات، بے غیرتی، بے وقری، بے قدری خفت، ذلت، رسوائی بدنامی، بے آبروی، فضیحت، شرمناک یا ذلیل حرکت۔ يالَلْخَجَل: اف یہ رسوائی، ہائے یہ ذلت! یہ تو بڑی شرمناک بات ہے! خَجِل: شرمندہ، نادم، شرمسار۔ شرمیلا، جھجکنے والا، بے حوصلہ، بجیلا، حیادار، جھینپنے والا، بھڑکنے والا، ڈرپوک، بزدل، خائف، بودا، بے حد شرمیلا، ڈھکنے والی فراوان روئیدگی، نباتات، سبزی، بہت اور باافراط روئیدگی لمبا لٹکتا یا لہراتا (لباس)۔ خَجُول: شرمندہ، نادم، شرمسار، شرمیلا، حیادار، جھینپنے والا، دور رہنے والا، بھڑکنے والا، ڈرپوک، بزدل، خائف، بجیلا بے حد شرمیلا، اپنے اوپر بھروسہ نہ رکھنے والا، بدگمان، خَجلان: شرمندہ، نادم، شرمسار، شرمیلا، حیادار، جھینپنے والا، دور رہنے والا، بھڑکنے والا، ڈرپوک، بزدل شرم سے حواس باختہ، گھبرایا ہوا، پریشان۔ مَخْجُول: شرمندہ۔ خجل، نادم، منفعل، شرمیلا، جھینپو۔ مُخْجِل: شرم کرنے پر ابھارنے والا، شرمناک، برا مذموم، سخت برا، رسوائی کا موجب، رسوا کن، فضیحت ناک۔ الأعضاءُ المُخْجِلَة: بیرونی آلات تناسل یا اعضائے تناسل، خصوصا عورت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے (Pudenda)۔

خجی: خَجَی ـِ خَجْیًا التراب برجلِهِ: پاؤں سے خاک اڑانا۔ خَجِیَ ـَ خَجًی: شرم کرنا، حیا کرنا۔

خدّ: ۱۔ خَدَّ ـُ خَدًّا فیه الضربُ: میں چوٹ کا نشان چھوڑنا۔ الاَخادید: کوڑے کی مار کے نشانات۔ اسی سے ہے۔ اخادیدُ الحبال: کنویں میں رسی کھینچنے کے نشانات۔

۲۔ خَدَّ ـُ خَدًّا الارضَ و فی الارض: زمین پھاڑنا۔ الخَدّ جمع اَخِدَّۃ و خِدَاد و خِدَّان: لمبا گڑھا، پانی کی نہر طریقہ۔ الخُدَّۃ جمع خُدَد: لمبا گڑھا۔ الاخدُود جمع اَخَادِید: لمبا گڑھا، خندق۔ المِخَدَّۃ جمع مَخَادّ: زمین پھاڑنے کا آلہ۔

۳۔ خَدَّدَ تَخْدِیدًا لحمُهُ: کا دبلا ہو کر گوشت کا جھری دار ہونا۔ لحمُهُ: کو دبلا کرنا۔ تَخَدَّدَ لحمه: کے دبلا ہونے کے سبب گوشت کا جھری دار ہونا۔

۴۔ خَادَّ مُخَادَّۃً ہٗ: کے کام میں مزاحم ہونا۔ تَخَادًّا: ایک دوسرے کی مزاحمت کرنا۔ تَخَدَّدَ القومُ: لوگوں کا فرقوں میں بٹنا۔

۵۔ الخَدّ جمع اَخِدَّۃ و خِدَاد و خِدَّان: لوگوں کی ایک جماعت۔ جمع خُدُود من الوجه (ع ا): رخسارہ۔ الخُدُود: کواڑ کے دونوں پٹوں کے اطراف میں لکڑی کے تختے۔ المِخَدَّۃ جمع مَخَادّ: سوتے وقت رخسارہ رکھنے کا تکیہ۔ المِخَدَّان: دونوں کچلیاں۔

○ خَدَّ ـُ خَدًّا ہٗ: زمین میں ہل چلانا، لیک ڈالنا۔ تَخَدَّدَ: لیک پڑنا۔ (کھال پر) جھریاں پڑنا۔ خَدّ جمع خُدُود: رخسارہ، جانب، بغلی یا پہلو کا حصہ۔ صَعَّر خَدَّهُ: متکبرانہ وضع قطع اختیار کرنا۔ خَدّ و خُدَّۃ جمع خُدَد: لکیر، ابھری ہوئی لکیر، باہن، پہیوں سے بنی ہوئی نالی، جھری، خانہ۔ اخدُود: لکیر، ابھری ہوئی لکیر، باہن، پہیوں سے بنی ہوئی نالی، جھری، خانہ، خندق، گڑھا، غار۔ مِخَدَّۃ جمع مَخَادّ: تکیہ، گدہ، گاؤ تکیہ۔

خدب: ۱۔ خَدَبَ ـُ خَدْبًا ہٗ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ الخَدِب من السیوف: کاٹنے والی تلوار۔ طعنۃ او حربۃ خَدْبَۃٌ و خَدْبَاء: نیزہ یا برچھی جس کا گھاؤ سخت اور کشادہ ہو۔

۲۔ خَدَبَ ـُ خَرْبًا تهُ الحیَّۃُ: کو سانپ کا ڈسنا۔

۳۔ خَدَبَ ـُ خَدْبًا: جھوٹ بولنا۔ الخَدَّاب: بڑا جھوٹا۔

۴۔ تَخَدَّبَ: لمبا ہونا۔ خَدَب: لمبائی (کہا جاتا ہے: فی لسانه خَدَبٌ: اس کی زبان سے اوچھا پن اور حماقت ٹپکتی ہے۔) اوچھا پن، حماقت، ہلکا پن، بیوقوفی۔ الخَدِب والاخدَب: لمبا بیوقوف، جلد باز۔ الخَدْبَۃ: لمبائی۔

۵۔ تَخَدَّبَ: درمیانی چال چلنا۔

خدج: خَدَجَ ـُ خِداجًات الدابَّۃُ: جانور کا ادھورا بچہ گرانا۔ صفت: خادِج و مُخْدِج۔ لہٰذا ادھورا بچہ یا وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کو خَدِیج و خَدُوج و مُخْدَج کہتے ہیں۔ خَدُوج کی جمع خُدُوج و خِداج و خَدَائِج ہے۔ خَدَّجَتِ الناقۃ: بمعنی خَدَجَتْ اَخْدَجَتِ الدابَّۃُ بمعنی خَدَجَتْ: ـ الشیءُ: ناقص ہونا۔ ـ صلاتهُ: بعض ارکان نماز میں کمی کرنا۔ الخِدَاج: نقصان، کمی۔

○ خِدِیج: قبل از وقت پیدا ہونے والا بچہ۔ خِداج: اسقاط،

خدر: ۱۔ خَدِرَ ـَ خَدَراً العضوُ: عضو کا سن ہو جانا۔ ـ ت العینُ: آنکھ کا بھاری ہونا۔ خَدَّرَ و اخدَرَ العضوَ: عضو کو سن کر دینا، بے حس کر دینا۔ الخادِر: ست، کاہل، حیران۔ الخَدَر (طب): عضو کی بے حسی، کاہلی، سستی۔ الخَدِر: بے حس عضو والا۔

۲۔ خَدِرَ ـَ خَدَرًا الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا۔ ـ النهارُ: دن کا تیز گرمی اور حبس والا ہونا۔

۳۔ خَدِرَ ـَ خَدَرًا البردُ: سردی کا تیز ہونا۔ نهارٌ خَدِرٌ: نمناک سرد دن۔

۴۔ خَدَرَ ـُ خَدْرًا: متحیر ہونا۔ الخَادِر: متحیر۔

۵۔ خَدَرَ ـُ خَدْراً بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـ الاَسدُ فی عرینه: شیر کا ماند میں رہنا۔ و خَدَّرَ البنتَ: لڑکی کو پردہ میں رکھنا۔ اخدَرَ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـ مع اهل: اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔ الاسدُ: شیر کا جھاڑی میں رہنا۔ ـ البنتَ: لڑکی کو پردہ میں رکھنا۔ ـ الاسدَ عرینهُ: جھاڑی کا شیر کو چھپالینا۔ ـ اللیلُ القومَ: رات کا لوگوں کو ڈھانپ لینا۔ تَخَدَّرَ و اِختَدَرَ: چھپنا۔ ـ ت البنتُ: لڑکی کا پردہ میں رہنا۔ الخِدْر جمع خُدُور و اَخْدار جج اخادِیر: ہر ایک چیز جس سے پردہ کیا جائے، شیر کی جھاڑی، لڑکی کے لئے مکان کے ایک گوشہ میں لگایا ہوا پردہ، لڑکی کے رہنے کی خاص علیحدہ جگہ، رات کی تاریکی۔ الخَدَر: تاریکی، تاریک جگہ۔ الخَدِر من اللیالی: اندھیری رات، ـ من الامکنۃ: چھپی ہوئی تاریک جگہ۔ الخِدار: شیر کی جھاڑی۔ الخُدْرَۃ: سخت تاریکی۔ الأَخدَر: تاریک رات۔ والأَخدَرِی (ح): ایک قسم کا جنگلی گدھا۔ الخَدَر: [illegible] (دوسرے مرحلہ میں لی ہوئی شکل) اس حالت میں پتنگا پوری طرح خول میں چھپا ہوتا ہے۔ المَخدورُ من الهوادج: پردہ پڑا ہوا ہودہ۔ الخُدارِیّ: تاریک رات، سیاہ بادل۔ ایک قسم کا جنگلی گدھا۔ الخداریَّۃ (ح): عقاب۔

۶۔ خَدَرَ ـُ خَدُراً الظبیُّ: ہرن کا گلہ سے پیچھے رہ جانا۔

۷۔ الخَدَرْنَق جمع خَدَارِن (ح): نرمکڑی بعض کے نزدیک: نرمکڑی، بڑی لکڑی، مکڑا۔

○ خَدِرَ ـَ خَدَرًا: (ٹانگ بازو وغیرہ کا) سن یا شل ہونا جھنجھنانا۔ خَدَرَ ـُ خَدْرًا ها: لڑکی کو عورتوں کے لئے مخصوص حصہ میں رکھنا، کو علیحدگی میں رکھنا۔ خَدَّرَ ہ/ ہٗ: کو سن یا شل کرنا، بے حس کرنا، اکڑا دینا، بے ہوش کرنا، مدہوش کرنا (دماغ) مختل کرنا، مدہوش کرنا۔ سلا دینا، بیہوش کرنے والی دوا دینا۔ ـ ها: لڑکی کو عورتوں کے لئے مخصوص جگہ میں رکھنا، علیحدہ رکھنا۔ اخدَرَ ہ/ ہٗ: کو سن کرنا، شل کرنا، بے حس کرنا اکڑا دینا، بے ہوش کرنا، مدہوش کرنا۔ تَخَدَّرَ: سن ہونا، شل ہونا، بیہوش ہونا، بے حس ہونا، ساکن ہونا، بے حرکت ہونا۔ خِدْر جمع خُدُور و اخدَار و اخادِیر: پردہ، عورتوں کے رہنے کی جگہ (خیمہ میں) خواتین کا ذاتی کمرہ، حجلہ۔ خَدَر و خُدْرَۃ: بے حسی، شل ہونا، (کسی عضو کی جو سو گیا ہو) بے حسی، حیرت، سستی مدہوشی، خَدِر: بے حس شل (عضو)، بیہوش بے حرکت، سن، ست، بدحواس۔ تَخدِیر: دوا دے کر بے حس یا بیہوش کرنا، سن کرنا، غنودگی طاری کرنا، خادِر: ڈھیلا، نرم، ست، بے طاقت، صعیف، کمزور، ناتواں، کاہل، مضمحل، سن، بے حس، بے حس و حرکت، بدحواس، اپنے مسکن میں چھپا ہوا، تاک لگائے یا تاک میں رہنے والا (شیر) خادِرَۃ: تتلی یا پتنگے وغیرہ کی پر نکلنے سے پہلے کی حالت۔ مُخَدِّر: وہ چیز جو بیہوش کر دے درد دور کرنے والی (دوا)، سکون پیدا کرنے والی دوا۔ جمع مُخَدِّرات: بیہوشی پیدا کرنے والی نشہ آور، خواب آور (دوا) بے ہوش کرنے والی دوا، خواب آور یا نشہ والی دوا۔ مُخَدَّر: بے حس، سن، شل، بے حس و حرکت، ست کاہل، بے ہوش، مدہوش، نشہ میں چور، پیے ہوئے۔ مُخَدَّرَۃ: بیرونی دنیا سے علیحدگی میں رکھی ہوئی لڑکی۔ پردہ نشین لڑکی۔

خدش: خَدَشَ ـِ خَدْشًا و خَدَّشَ ہٗ: کو نوچنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، خراش لگانا، الخَدْش جمع خُدُوش و خِدَاش و اخدَاش: خراش۔ الخَدُوش: بہت خراشیں لگانے والا، مکھی، پسو۔ المُخَادِش و المُخَدِّش

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(ح): بلی۔ المُخَدَّش: انسان کی گردن کی کٹنے کی جگہ۔

○ خَدَشَ ـِ خَدْشًا ہ: کونوچنا، کھرچنا، چھیلنا، پہ ناخن مارنا، پنجہ مارنا، کو زخمی کرنا، خراب کرنا، پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کے پرخچے اڑانا، کی تکہ بوٹی کرنا، پاش پاش کرنا، کو سخت صدمہ پہنچانا، (تہذیب و شائستگی کے قواعد) کی خلاف ورزی کرنا، کسی شخص کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ کی بے حرمتی کرنا (امن) میں خلل ڈالنا ـــ سُمْعَتَهٗ: کی شہرت کو داغ لگانا برباد کرنا۔ خَدَّشَ: بمعنی خَدَشَ۔ خَدْش جمع خُدُوش و أخْدَاش: خراش، خراش کا نشان، رگڑ۔

خدع: ۱۔خَدَعَ ـَ خَدْعًا و خِدعًا و خَدَعًا ہٗ: کو دھوکا دینا فریب میں لانا۔خَادَعَ مُخادَعَةً و خِداعًاہٗ: کو دھوکا دینا، فریب میں لانا۔العینَ: آنکھ کی دیکھی ہوئی بات میں شک ڈالنا۔سورہ نساء میں ہے یخادعون اللّٰہ و ھو خادعُھُم: وہ اپنے طور پر اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔جب کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کرم فرمائی دکھا کر ان سے آخرت کے عذاب کو چھپاتا ہے یعنی ان کے دھوکہ کا بدلہ دیتا ہے۔اَخْدَعَ ہٗ: کو دغا بازی پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔تَخَدَّعَ ہ: کو دھوکا دینا، فریب دینا ـــ لہ: کو جھوٹ موٹ دھوکا دینا۔تَخادَعَ: دھوکا کھانے کا بہانہ کرنا ـ القومُ: ایک دوسرے کو دھوکا دینا۔اِنْخَدَعَ: دھوکا کھانا، فریب میں آجانا، دھوکے پر رضامند ہوجانا ـ بہ: سے دھوکا کھانا۔اِخْتَدَعَ ہ: کو دھوکا دینا، فریب میں لانا۔الخَدِیْعَة جمع خَدَائِع و الخُدْعَة والخِداع: دھوکے کا ذریعہ، مکر، حیلہ۔الخُدَعة: بہت دھوکا کھانے والا، جسے لوگ دھوکا دیتے رہیں۔الحربُ خُدْعَةٌ: جنگ میں مرد دھوکا کھا جاتے ہیں۔الخُدَعَة والخَدَّاع: بہت دھوکا دینے والا۔الأخْدَع جمع اخادِع: اسم تفضیل: زیادہ دھوکے باز۔الخَیْدَع: بہت دھوکا دینے والا، ناقابل اعتبار دوست، سراب، مکار بھیڑیا۔الخَدُوع جمع خُدُع: بہت دھوکا دینے والا، بہت فریبی۔المُخَدَّع: تجربہ کار جو کئی بار دھوکے کھا چکا ہو۔

۲۔خَدَعَ ـَ خِدْعًا و خَدْعًا الضبُّ فی جُحْرِهٖ: سوسمار کا اپنے بل کے اندر جانا ـ ت الشمسُ: سورج کا غائب ہونا ـ ت الطریقُ: راستہ کا غیر معلوم ہونا۔الثوبَ: کپڑے کو موڑنا، تہہ کرنا ـ الامرَ: معاملہ کو چھپانا۔أخْدَعَ الشیءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔طریقٌ خادِع و خَدُوع: وہ راستہ جو کبھی نظر آئے اور کبھی اوجھل ہوجائے۔الخَیْدَع: مقصد کے مخالف نامعلوم راستہ۔الخادِعَة: مکان کی کوٹھڑی۔ بڑے دروازے کی کھڑکی۔عام لوگ اسے خوخة کہتے ہیں۔المخدَع و المُخْدَع و المَخْدَع جمع مَخَادِع: کوٹھری جو بڑے گھر کے اندر ہو۔

۳۔خَدَعَ ـَ خِدْعًا و خَدْعًا الشیءُ: چیز کا خراب ہو جانا۔الخادِع من الدنانیر: کم وزن دینار۔

۴۔خَدَعَ ـَ خِدْعًا و خَدْعًا الرجلُ: عطیہ دینے سے رکنا، کی دولت کا کم ہونا۔المطرُ: بارش کا کم ہونا۔الخَدَّاعَة من السنین: کم پیداوار اور کم سرسبزی والا سال۔

۵۔خَدَعَ ـَ خِدْعًا و خَدْعًا و خَدَعَانًا السوقُ: بازار کا ٹھنڈا ہونا سرگرم ہونا ـ ت الامورُ: مختلف ہونا۔اِنْخَدَعَت السوقُ: بازار کا ٹھنڈا ہونا۔

۶۔خَدَعَ ـَ خِدْعًا و خَدْعًا الرجلَ: کی رگ (اخدع) کو کاٹ دینا۔الأخْدَعان، الأخْدَع کا تثنی جمع اخَادِع (اع ا): گردن کی ہر دو جانب دو پوشیدہ رگیں۔کہا جاتا ہے لأُقِیْمَنَّ أخْدَعَیْكَ) میں تیرے تکبر کو مٹادوں گا۔نیز کہا جاتا ہے فلانٌ شدیدُ الأخدع: فلاں شخص بڑا سرکش ہے۔

○ خَدَعَ ـَ خِدْعًا عن: سے بے ایمانی سے کچھ حاصل کرنا ـ ہ: کو دھوکا دینا، فریب دینا، جل دینا، غلط راہ پر لگانا غلط خیال دلانا، سے غلطی کرانا، کو ٹھگ لینا۔خُدِعَ عن: کے بارے میں غلطی پر ہونا، کا غلط مطلب سمجھ لینا، سے غلط تاثر لینا، کو صاف نہ دیکھ سکنا۔خَادَعَ ہ: کو دھوکا دینا، فریب دینا، جل دینا، سے بے ایمانی کرنا، دغا کرنا، بے ایمانی کرنا، کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا، سے دوزخی سے کام لینے کی کوشش کرنا۔اِنْخَدَعَ ب: سے غلط راہ پر لگنا، دھوکا کھانا، بہک جانا، غلطی پر ہونا، خُدْعَة جمع خُدَع و خدعات: دھوکا، فریب، دغا، پاکھنڈ، ڈھکوسلا، داؤں، فریب خوردگی بے ایمانی ٹھگی۔خُدَعَة: ٹھگ، دھوکے باز، عیار، فریبی، پتے باز، دغا باز۔سوّی أخْدَعَهٗ: کسی کا تکبر کچل ڈالنا، کو ذلیل کرنا۔خَدِیْعَة جمع خَدَائِع: دھوکا، فریب، مکر، دغا، چال، داؤں، غداری، بیوفائی، افشائے راز، جھوٹ، خَدَّاع: جھوٹا، فریبی، دغا باز، جھوٹا دعویدار، مدعی، پتے باز، ٹھگ، عیار دھوکے باز، عیار، بے ایمان، دھوکے میں ڈالنے والی (شیئ حالت باشکل) پرفریب ـ خَیْدَع: سراب ـ اَخادِیع: دھوکے، فریب، ٹھگیاں، بے ایمانی کے تعلقات یا لین دین چالبازیاں، بدویانتیاں، عیاریاں، اوہام، وہمی صورتیں، توہمات، وسوسے، مغالطے۔مِخْدَع و مُخْدَع و مَخْدَع جمع مَخَادِع: چھوٹا کمرہ، کمرہ خواب گاہ، خلوت کدہ، خِدَاع: دھوکا، فریب، دغا بازی، پاکھنڈ، فریب خوردگی، ڈھکوسلا، داؤں، غداری، دھوکا دہی، بے وفائی، دغا، افشائے راز مکاری، دورنگا پن، دوزخا پن، ریاکاری، منافقت چالبازی۔خِدَاعی: حیلہ گرانہ، فریبی، مکارانہ، دھوکے اور فریب کا، گمراہ کن، فریب دہ، دھوکے میں ڈالنے والی (چال وغیرہ) پر فریب وہمی، بے اصل، غیر حقیقی، غلط، جھوٹا۔مُخَادِع: پتے باز، دھوکے باز، فریبی، دغے باز، ٹھگ، مکار، پاکھنڈی، بہروپیا، جعلساز، بدمعاش۔

خدف: خَدَفَ ـِ خَدْفًا: تیز چلنا ـ ت السماءُ بالثلج: آسمان کا برفباری کرنا۔واختدف الشیءَ: کو اچک لینا۔الخُدْف: کشتی کا پتوار۔

خدل: خَدِلَ ـَ خَدَلًا و خَدَالَةً و خُدُولَةً ت الساقُ: پنڈلی کا پُرگوشت ہونا۔

○ خَدِلَ ـَ خَدَلًا و خَدَالَةً و خُدولَةً: سخت ہونا، اکڑ جانا، بے لوچ ہونا، سن ہوجانا، بے حس ہوجانا ٹھٹھر جانا، سست ہونا، بے طاقت ہونا، بے جان ہونا، ڈھیلا اور نرم ہونا۔

خدم: ۱۔خَدَمَ ـُ ـِ خِدْمَةً و خَدْمَةً ہٗ: کی خدمت کرنا، کے لئے کام کرنا صفت خَادِم جمع خُدَّام و خَدَم مؤنث خادم و خادمة۔اَخْدَمَ ہٗ: کو خادم دینا۔ اِخْتَدَمَ: خود اپنی خدمت کرنا۔کہا جاتا ہے۔لابکلّمن لم یکن لهٗ خادمٌ أن یَختَدِمَ: جس کے پاس نوکر نہ ہو اس کو خود اپنا کام کرنا ہوگا۔ ـ ہٗ: سے خادم مانگنا کو خادم بنانا۔اِسْتَخْدَمَ ہٗ: کو خادم بنانا ـــ الرجلَ: سے خادم مانگنا۔الخادِمِیَّة: نوکری غلامی۔المَخْدُومِیَّة: آقائی۔الخُدَّام: خادم۔المَخْدِیم: خادم، غلام المَخْدُوم (مفعول): آقا، مالک ـ من الکتب: وہ مقبول کتاب جس کی لوگ شرحیں اور حاشئے لکھیں۔قومٌ مُخَدَّمُون: بہت نوکر چاکر والے لوگ الخدمات: واحد خِدمَة: (اقتصادیات کے ماہرین کے نزدیک) غیر متوقع برآمدات، عبور، دوبارہ برآمد سیاحت اور گرمی کا موسم گزارنا ان خدمات میں شمار کئے جاتے ہیں۔

۲۔الخَدْمَة: رات یا دن کی ایک گھڑی یعنی وقت الخَدَمَة جمع خَدَم و خِدَام و خَدَمَات: پازیب، پنڈلی، لوگوں کا حلقہ، کہا جاتا ہے۔فضّ اللّٰہُ خَدَمَتَھُم: اللہ تعالیٰ ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

و الخِدْمَة: مضبوط چمڑے کا پٹہ جو اونٹ کے گٹے پر باندھا جاتا ہے۔ الأَخْدَم مونث خَدْماء: پاؤں پہ سفید داغ رکھنے والا گھوڑا۔ المُخَدَّم و المُخَدَّمَة: تسمہ، پاجامہ کے نیچے کے حصہ پر باندھنے کی ڈوری، پازیب پہننے کی جگہ۔

○ خَدَمَ ـِ خِدْمَةً: خدمت کرنا، نوکری کرنا، باروزگار ہونا، کام کرنا۔ ہ: کی خدمت کرنا۔ ـــہ/ہ: کا ملازم ہونا، نوکر ہونا، کی خدمات انجام دینا۔ خَدَمَ الارضَ: زمین پر کاشت کرنا۔ خَدَمَهُ خِدْماتٍ کثیرةً: اس نے ان کی کئی خدمات بجالائیں، سرانجام دیں۔ خدم رِکابَ فلانٍ: کے حکم کے ماتحت ہونا۔ خدَمَ مَصالحَ فلانٍ: کے مفادات کے لئے کام کرنا۔ خدم القُدّس: عشائے ربانی کی رسم منانا۔ خَدَّمَ ہ: کو ملازم رکھنا، سے اجرت دیکر کام لینا، کو محنتانے پر رکھنا، کو بھاڑے پر لینا، کو کام دینا، کے لئے کام مہیا کرنا۔ کو ملازمت دینا۔ استَخدَمَ ہ ل: کو کے لئے ملازم رکھنا، کو کے لئے محنتانہ پر رکھنا، مزدور رکھنا، کو کے لئے کام دینا، کو کے لئے کام مہیا کرنا۔ ـــہ: عوامی خدمات چلانا، ـــہ ل: کو کے لئے استعمال کرنا، ـــہ ل: کو کے لئے استعمال کرنا، سے کے لئے فائدہ اٹھانا۔ خَدَم: نوکر چاکر، خادمین، خِدْمَة جمع خِدَم و خدمات: خدمت، حضوری، نوکری، ملازمت، عمل، کام، محکمہ پیشہ۔ فی خدمة شیء: کی خدمت میں۔ فی خِدمتِکُم: آپ کی خدمت کے لئے حاضر، آپ کی خدمت پر کمربستہ۔ خِدْمَةً للحقیقة: سچائی کی خاطر، سچائی کے مفاد میں الخدمة العسكرية: فوجی ملازمت۔ الخدمة الاجبارية: لازمی ملازمت، (فوج میں) جبری بھرتی، جبری ملازمت۔ الخدمة السِرّيّة: سیکرٹ سروس (حکومت کا وہ محکمہ جو حکومت کے فوجی اور سیاسی رازوں کی حفاظت اور دوسری حکومتوں کے رازوں کو معلوم کرتا ہے)۔ خِدْمَةُ القُدّاس: عشاء ربانی کی رسم اور نماز یا دعا۔ خَدّام جمع خَدّامَة: ملازم، نوکر یا خادم، ملازمہ، نوکرانی، خَدامَة: حضوری، خدمت، ملازمت پیشہ، عمدہ کام۔ خَدّامَة جمع خَدّامات: ملازمہ، نوکرانی۔ تَخْدِیم: روزگار کے کارندے کا کام، پیشہ یا فرض۔ مکتبُ التخدیم: محکمہ روزگار، محکمہ مزدوران۔ اِستخدام: چلانا، عمل میں لانا، استعمال، استفادہ ملازمت، (ملازم کو) محنتانے پر لینا، خدمت، پیشہ، حیثیت، کام۔ خادم جمع خُدّام و خَدَمَة: گھریلو نوکر، مدد، نوکر، نوکرانی ملازم، خادم، حاضر باش، ویٹر یعنی کھانا لانے والا، چھوٹا پادری (ڈیکن)۔ خادِمَة: نوکرانی، گھریلو نوکرانی، کھانا لانے والی، ملازمہ، خادم۔ خادِمِیَّة: خادم کا درجہ یا حیثیت۔ مَخدُوم جمع مَخْدُومُون و مَخادِیم: آقا، مالک، ملازم رکھنے والا۔ مَخْدُومَة: مالکن، خاتون خانہ ملازم رکھنے والی۔ مَخدومیة: آقا یا ملازم رکھنے والے کا درجہ، رتبہ، حیثیت۔ مُخَدَّم جمع مُخَدَّمُون: ملازمت کا کارندہ۔ مُسْتَخدِم: ملازم رکھنے والا۔ مُسْتَخدَم جمع مُسْتَخدَمُون: ملازم، اہلکار۔

خدن: خادَنَ مُخادَنَة ہ: سے دوستی کرنا، کا ساتھی بننا یا ہونا۔ الخِدْن جمع اَخْدان: محبوب، ساتھی (مذکر و مؤنث)۔ الخَدِین بمعنی الخِدْن۔ الخَدَنَة: یار باش آدمی۔

○ خادَنَ ہ: سے دوستی کرنا، کا ہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ خِدْن جمع اَخْدان: جگری دوست، ساتھی، ہمراز، رازدار، محرم۔

خدی: ا۔ خَدَی ـِ خَدْیًا و خَدَیانًا الفرسُ او البعیرُ: گھوڑے یا اونٹ کا تیز دوڑنا۔ اَخْدَی اِخْداءً: تھوڑا تھوڑا چلنا۔ الخَدا واحد خَداة (ح): جانور کے گوبر سے نکلنے والا کیڑا۔

۳۔ الخُدَیْوِیّ: عزیز مصر کا لقب۔ یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی بادشاہ، وزیر اور سردار ہے۔

○ خِدیو و خُدَیْوی: عزیز مصر کا لقب۔ خِدیُوی: خدیو کا یا کے متعلق۔

خذ: خَذَّ ـُ خَذِیذًا و اَخَذًا لجرحُ: زخم کا پیپ بہنا۔

خذأ: خَذَأَ و خَذِئَ ـَ خَذْأً و خُذُوءً ا و خَذاءً و اِسْتَخْذَأَ لَہٗ: کے آگے فروتنی کرنا، کا مطیع و فرمانبردار ہونا۔ اَخْذَأَہٗ: کو ذلیل کرنا، تابع کرنا۔ الخَذاء: نفس کی کمزوری۔

○ اِسْتَخْذَأ: مطیع و فرمانبردار ہونا۔ مُسْتَخْذِی: فرمانبردار، اطاعت شعار، اطاعت پذیر، انقیاد پذیر، منقاد، غلاموں کا سا، غلامانہ، کمینہ، ذلیل، فرومایہ، تابع فرمان، مطیع۔

خذر: ا۔ خَذْرَفَ: جلدی کرنا۔ الخُذْرُوف جمع خَذارِیف: تیز چلنے والا۔ پھرکی، چکری۔ اس کو خَرّارَة بھی کہتے ہیں۔ بچوں کا ایک کھلونہ جسے البُلبُل کہا جاتا ہے۔

۲۔ خَذْرَفَهُ بالسیف: کے جسم کے اطراف کی تلوار سے قطع و برید کرنا۔ تَخَذْرَفَ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ الخُذْرُوف جمع خَذارِیف: اونٹوں کا گلہ جوان

marfat.com

ہے۔ تركت السيوف رأسهُ خَذارِيف: تلواروں نے اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے۔

۳۔ خَذْرَفَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

۴۔ تَخَذْرَفَ النوی: گٹھلیاں پھینک دینا۔

۵۔ المُتَخَذْرِف من الرجال: خوش خلق آدمی۔

○ خُذْرُوف جمع خَذارِیف: (گھومنے والا) لٹو۔ خُذْرُوفِیّ: لٹو جیسا، لٹو کا سا، لٹو کی شکل کا، گھومنے والا۔

خذع: ا۔ خَذَعَ ـَ خَذْعًا و خَذَّعَ اللحمَ او القرعَ: گوشت یا کدو کی پھانکیں کرنا۔ کہا جاتا ہے: ذهبوا خِذَعَ مِذَعَ: وہ الگ الگ بچھڑ کر چلے گئے۔ الخَذْعة: زمین وغیرہ کا ٹکڑا۔ الخَذِینَة: ایک قسم کا کھانا جو گوشت کے قیمہ سے بنایا جاتا ہے۔ المِخْذَعَة: چھری۔

۲۔ خَذْعَبَ و خَذْعَلَ البِطّیخَ ونحوہ: خربوزہ یا تربوز کی پھانکیں کرنا، پھاڑیاں کرنا۔

○ خَذَفَ ـِ خَذْفًا ہ/ب: کو پھینک دینا۔ مِخْذَفَة: فلاخن، گوپھن۔

خذف: خَذَفَ ـِ خَذْفًا بالحصاة و نحوها: انگلیوں یا گوپھن سے کنکریاں وغیرہ پھینکنا۔ تَخاذَفَ ب عیناه بالدموع: کی آنکھوں کا تیزی سے آنسو بہانا۔ المِخْذَفَة: گوپھن، غلیل۔ الخُذْفان: اونٹوں کی تیز رفتاری کی ایک قسم۔ الخُذُوف جمع خُذُف من الدواب: تیز رفتار جانور جو تیز رفتاری کی وجہ سے دوڑنے میں کنکریاں اڑائے۔ الخُذّافَة: سرین، چوتڑ۔

خذق: خَذَقَ ـُ خَذْقًا الدابةَ: جانور کو تیز چلانے کے لئے چھڑی وغیرہ چبھونا۔ ـــ البازی: باز کا بیٹ کرنا۔ الخَذْق: گوبر، لید۔

خذل: ا۔ خَذَلَ ـُ خَذْلاً و خُذْلانًا و خِذْلانًا فلانًا و عنه: کی مدد ترک کرنا، کو چھوڑ دینا صفت خاذِل جمع خُذّال صفت مفعولی: مَخْذُول جمع مَخاذِیل، خَذَّلَ عنه اصحابَهٗ: کے ساتھیوں کو اس کی مدد سے دستکش ہونے کی ترغیب دینا۔ ـــہٗ: کو پسپائی اور جنگ ترک کرنے پر آمادہ کرنا۔ خاذَلَ مُخاذَلَة ہ: کی مدد کرنا چھوڑ دینا۔ تَخاذَلَ القوم: ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دینا۔ ـــت رِجلاهُ: کی ٹانگوں کا کمزور ہونا۔ الخَذّال: خاذِل سے مبالغہ کا صیغہ: بڑا مدد چھوڑنے والا۔ الخُذَلَة: وہ شخص جس کی مدد چھوڑ دی جائے۔ الخَذُول: بہت مدد چھوڑنے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والارجلْ خَذوُلُ الرِجل: وہ شخص جس کی ٹانگیں کمزوری، آفت یا نشہ کے باعث کام دینا چھوڑ دیں۔
۲۔خَذَلَ ـُ خَذْلاً و خَذَلَاناً و خِذْلانات الظبیۃُ: ہرنی کا ڈار سے پیچھے رہ جانا اور الگ ہو جانا صفت: خاذِل و خُذُول۔
○ خَذَلَ ـُ خَذْلاً و خِذلاناً ہ/عن: کو چھوڑ دینا، سے دست کش ہونا، بے تعلق ہونا، کو مدد اور دوستی سے محروم کر دینا سے منہ موڑ لینا، (دوست) کو مصیبت میں دیکھ کرانجان ہو جانا۔ پیچھے رہ جانا، ناامید کرنا، مایوس کرنا۔خَذِلَ: ناکام ہونا، قاصر ہونا، ہمت ہار دینا، پسپائی سہنا، ناامید ہونا خَاذَلَ ہ: کو چھوڑ دینا، سے دست کش ہونا، بے تعلق ہونا، کو مدد اور دوستی سے محروم کرنا، سے منہ موڑ لینا، (دوست) کو مصیبت میں دیکھ کرانجان ہو جانا۔تَخَاذَلَ: کم طاقت ور ہونا، نڈھال ہونا سست ہونا، کی صحت و طاقت زائل ہونا، گھٹ جانا، کم ہو جانا مرجھانا، کمزور ہونا۔اِنْخَذَلَ: مصیبت میں ساتھ چھوٹ جانا، بے بس ہونا، شکست خوردہ ہونا، مایوس و ناامید ہونا۔خِذلان: مایوسی، ناامیدی۔ تخاذل: تھکن، تھکاوٹ، ضعف، کمزوری، ناتوانی، غنودگی، ڈھیلا ہونا، کشیدگی، کشاکش یا کھچاؤ کا کم ہونا، اختلاف، نااتفاقی، اختلاف رائے انخذال: شکست، بیکسی، مدد اور دوستی سے محرومی، بیوفائی سے ساتھ چھوٹنا، دست کشی، مُتَخَاذِل: کمزور تھکا ماندہ، ناتواں، سست، کاہل، مضمحل، بے ہمت، تھکا ہوا۔

خذم: ا۔خَذَمَ ـِ خَذْمًا و خَذَّمَ الشیءَ: کو جلدی سے کاٹنا۔خَذِمَ ـَ خَذَمًا: کٹ جانا۔ —خَذَمًا: تیز چلنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔تَخَذَّمَ الشیءَ: کو تکلف سے کاٹنا۔ —الشیءُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔اِخْتَذَمَ الشیءَ: کو کاٹنا۔الخَذُوم جمع خُذُم و الخَذِم و المِخْذَم والمُخَذَّم من السیوف: کاٹنے والی تلوار۔الخُذَامَۃ: کسی چیز کا ٹکڑا۔المِخْذَم: کاٹنے کا آلہ، چھری، تلوار وغیرہ۔
۲۔خَذِمَ ـَ خَذَمًا: مست ہونا صفت: خَذِیم۔ اَخْذَمَہُ الشرابُ: کو شراب کا نشہ میں لانا، مست کرنا۔
۳۔اَخْذَمَ: ذلت کا اقرار کرنا اور چپ رہنا۔
۴۔اِخْتَذَمَ الرجلُ: فیاض اور خوش دل ہونا۔الخَذِم من الرجال: فیاض اور خوش دل آدمی۔

خذا: خَذَا ـُ خَذْوًا و خَذِیَ ـَ خَذًی: ڈھیلا ہونا، —ت الأُذُنُ: کان کا ڈھیلا ہونا، لٹکا ہوا ہونا۔ خَذْوَاء: ڈھیلا کان، لٹکا ہوا کان، أَخْذَی: ڈھیلے کان والا، لٹکتے کان والا۔ —لحمُہُ کے گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔اِسْتَخْذَی: تابع دار اور فرماں بردار ہونا۔
○ اِستخذاء: حکم برداری، ماتحتی، فروتنی، عاجزی، انکسار، فرمانبرداری، غلامی، چاکری۔مُسْتَخْذٍ: اطاعت گزار، فرمانبردار، خوشامدی، چاپلوس، کاسہ لیس، تابع، مطیع، حکم بردار، اطاعت شعار۔

خرّ: ا۔خَرَّ ـِ خَرِیرًا الماءُ او الریحُ: پانی کا شور کرتے ہوئے بہنا، غرغر کرنا، ہوا کا سنسنانا، سرسراہنا۔ صفت: خَرَّار۔ — النائم: سوتے شخص کا خراٹے لینا۔الخُرّ جمع خِرَرَۃ: وہ قطعہ زمین جس میں سیلاب شگاف ڈال دے۔(ع ا): کان کی جڑ۔ و الخُرِّی: چکی کا سوراخ جس میں گیہوں وغیرہ کے ڈالے جاتے ہیں۔ الخرور: پانی اور گڑھے والی زمین، بلی کی آواز۔ الخریر جمع اَخِرَّۃ: دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین، خراٹا (سونے والے کا)۔الخَرَّار مونث خَرَّارَۃ: بہت خراٹے لینے والا۔الخَرَّارَۃ: لٹو، پھرکی۔
۲۔خَرَّ ـِ خَرًّا و خُرُورًا: بلندی سے پستی میں گرنا۔ —الرجلُ: مرنا۔ —لِلّٰہِ سَاجِدًا: اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ —لِوَجْھِہ: منہ کے بل گرنا۔اَخَرَّ اِخْرَارًا ہُ: کو گرانا۔کہا جاتا ہے: ضربہ بالسیف فَاَخَرَّہُ: اس نے اسے تلوار سے مار گرایا۔ اِنْخَرَّ: ڈھلا ہونا۔
۳۔ خَرَّ ـُ خَرًّا و خُرُورا علیھم: پرانجان جگہ سے اچانک آپڑنا۔
۴۔خَرْخَرَ النائم: سوتے ہوئے شخص کا خراٹے لینا۔ النمِرُ و السِنَّورُ: چیتے یا بلی کا خرخر کرنا، آواز نکالنا۔تَخَرْخَرَ بطنُہ: پیٹ کا موٹاپے کے سبب ہلنا۔الخَرْخَر: پانی کی غرغر، ہوا کی سنسناہٹ، سرسراہٹ۔الخَرْخَار: کثرت سے بہتا ہوا پانی۔
○ خَرَّ ـِ خَرِیرًا: پانی کا سرسر بہنا، غرغر بہنا، ہلکورے اٹھنا، ٹپکنا، خراٹے لینا۔ —خَرًّا و خُرُورًا: گرنا، زمین پر گرنا، منہ کے بل گرنا۔ —علی الارض: زمین پر گرنا، خَرَّ بین یدیہ: اپنے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکایا۔خَرَّ تحت قدمیہ: وہ اس کے پاؤں پر گر پڑا۔ خریر: سرسر، لہر، ہلکی موج، ہلکورا، سرسراہٹ پانی کی روانی کی آواز۔ خَرْخَرَ: خراٹے لینا۔

خری ء: خَرِیَٔ ـَ خَرْأً و خِرَاءَۃً و خَرَاءَۃً و خُرُوءًا: پاخانہ کرنا، لید کرنا، بیٹ کرنا، کہا جاتا ہے۔ خَرِئَتْ بینھم الضبع: ان کے درمیان دشمنی ہو گئی۔ الخُرْءُ جمع خُرُوء: پلیدی، پاخانہ، لید، بیٹ۔ اَلْخَراء: پلیدی، پاخانہ، لید، بیٹ۔ المَخْرَاۃ والمَخْرُءَۃ جمع مَخَارِیُ: پاخانہ کرنے کی جگہ۔
○ خَرِیَٔ ـَ خَرْأً: رفع حاجت کرنا۔خُرْء و خَرَاء: پاخانہ، پیشاب، بول و براز، فضلہ، غلاظت، گوبر، بدن کی غلاظت۔

خرب: ا۔خَرِبَ ـَ خَرَبًا و خَرَابًا البیتُ: گھر کا ویران اور اجاڑ ہونا۔صفت: خَرِب، مونث خَرِبَۃ (جیسے الدار الخربۃ ویران اور اجڑا ہوا گھر)۔خَرَبَ ـِ خَرْبًا ہُ: کو ڈھانا، مسمار کرنا، تباہ کرنا۔خَرَّبَ البیتَ: گھر کو مسمار کرنا، ڈھانا۔ اَخْرَبَ البیتَ: گھر کو ویران چھوڑنا۔ —المکانُ: جگہ کا خالی ہونا۔ اِسْتَخْرَبَ الرجلُ: آدمی کا مصیبت سے شکستہ حال ہونا، اور تباہی کا طالب ہونا۔الخَرِب: ویران جگہ۔ کہا جاتا ہے: ھو خَرِبُ العِظام: اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں۔ ھو خَرِبُ الجَوف: وہ خالی پیٹ ہے، بھوکا ہے۔خَرِب الامانۃ: وہ امانتداری نہیں رکھتا۔ الخَرْبَۃ: ویران جگہ۔ — والخَرِبَۃ جمع خَرِبَات و خِرَب و خَرِب و خَرَائِب: ویران جگہ۔ الخَرَاب جمع اَخْرِبَۃ خِرَب: ویران، اجاڑ۔
۲۔خَرِبَ ـَ خَرَبًا الرجلُ: پھٹے یا چھدے ہوئے کان والا ہونا صفت: اَخْرَب مونث خَرْبَاء جمع خُرْب۔ خَرَبَ ـِ خَرْبًا ہُ: کو پھاڑنا، چھیدنا، میں سوراخ کرنا۔خَرَّبَ المزادۃَ: توشہ دان میں سوراخ کرنا۔تَخَرَّبَ الدودُ الشجرۃَ: کیڑے کا درخت میں سوراخ کرنا۔اِسْتَخْرَبَ السقاءُ: مشک کا سوراخ دار ہونا۔الخُرْب والخُرَابۃ و الخُرْبَۃ جمع خُرَب و اَخْرَاب و خُرُوب: سرین کا گڑھا یا سوئی کا سوراخ (بعض کے نزدیک) ہر گول سوراخ مثلاً کان کا سوراخ۔الخُرْبَۃ جمع خُرَبَات: چھلنی۔خَرَّابَۃ و خُرَّابَۃُ الاِبْرَۃ: سوئی کا سوراخ۔ التخاریب مفرد تُخْرُوب (صحیح الخاریب ہے) بھڑوں کے چھتے جیسے سوراخ، وہ سوراخ جن میں شہد کی مکھی شہد جمع کرتی ہے۔
۳۔خَرَبَ ـِ خِرَابَۃً و خَرَابَۃً و خَرْبًا و خُرُوبًا: چور ہونا صفت: خَارِب جمع خُرَّاب۔
۴۔ اِسْتَخْرَبَ الیہ: کا مشتاق ہونا۔
۵۔الخَرِب: پہاڑ کا باہر نکلا ہوا کنارہ۔بزدل رجلٌ خِرِبَّان: بزدل آدمی۔الخرب و الخُرْبَۃ: گڈرے کا تھیلا جس میں وہ اپنا کھانا رکھتا ہے۔ دینی خرابی۔ الخَرْبَۃ جمع خَرَبَات: عیب، لغزش، ہر وہ چیز جس سے شرم کی جائے، گڈرے کا تھیلا، دینی خرابی، کہا جاتا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہے ھو صاحب خَرُبه: وہ دینی خرابی رکھتا ہے۔
ای سے ہےلحی اللّٰہ ادنانا الی کل خَرُبة: اللہ
تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو کہ اس نے ہم کو ہر مذہبی خرابی
سے قریب کر دیا۔ما رأینا من فلان خربةً فی
دینہ: ہم نے فلاں شخص کے دین میں کوئی خرابی نہیں
دیکھی۔الخَرُّوب و الخُرنُوب واحد خَرُّوبة و
خَرنُوبة (ن) ایک قسم کا درخت جس کے پتے
جانوروں کے چارہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور
ان سے شیرہ کی ایک قسم بھی نکالی جاتی ہے۔
۲ خَرُبَش خَرُبَشَةً الکتابَ او العملَ: کتاب یا کام کو
خراب کر دینا۔خَرَابِیشُ الخطّ: خط کی بگاڑی ہوئی
جگہیں۔
۷ خَرُبَصَ الاشیاءَ: چیزوں کو الگ الگ کرنا۔المالَ:
مال کو لے اُڑنا۔
۸ خَرُبَقَ: تیز چلنا۔ چلنے میں جلدی کرنا۔الشیءَ: کو
ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔الثوبَ: کپڑے کو پھاڑنا۔
-النبتُ: پودوں کا ایک دوسرے سے متصل ہونا۔
اِخرَنبَقَ: زمین سے چمٹنا، پسپا ہونا، سر جھکانا۔الخَرُبَق
(ن): ایک قسم کی گھاس جس کی پتیاں بارتنگ کے
مشابہ ہوتی ہیں اور سفید اور کالی ہوتی ہیں۔وہ پودے یا
درخت جو دافع جنون سمجھے جاتے ہیں۔
○خُراسان: شمال مشرقی ایران کا ایک صوبہ۔
○خَرَبَ ـِ خَربًا ہ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا، گرنا، گرانا،
مسمار کرنا، پاش پاش کر دینا، ویران کرنا، اجاڑنا۔
خَرِبَ ـَ خَرَابًا: تباہ ہونا، برباد ہونا، ویران ہونا،
اجڑنا، گرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔خَرَّبَ ہ: کو تباہ کرنا،
اجاڑنا، ویراہ کرنا، گرانا، مسمار کرنا، کو بری طرح نقصان
پہنچانا۔تباہ و برباد کرنا، کھنڈر بنا کر چھوڑنا۔أَخرَبَ:
بمعنی خَرَّبَ، تَخَرَّبَ: تباہ ہونا یا ہو جانا، برباد ہونا یا
ہو جانا اجڑ جانا، ویران ہونا، کا بری طرح نقصان ہونا،
کھنڈر ہونا، گرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔خَرُب: تباہی،
بربادی، ویرانی، غارت، تاراج، ہلاکت۔خُرُب:
سوراخ، ناکہ، سوئی کا سوراخ، چوتڑ۔خَرِب: تباہ شدہ،
برباد شدہ، مسمار شدہ، تباہ کیا ہوا، ویران کیا ہوا، اجاڑا
ہوا بنجر، بیابان، اجاڑ، ٹوٹا پھوٹا، شکستہ، خراب خستہ، بری
حالت میں، گرنے یا ٹوٹنے کے قریب، تباہ شدہ، برباد
شدہ، بگڑی ہوئی (کل) خِربَة جمع خِرَب: کھنڈر
(کی حالت) تباہی، خاتمہ، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی
عمارت، ڈھانچہ یا ڈھانچ۔خَربَة و خُربَة: مذہب
سے بیگانگی یا دشمنی، قانون شکنی، لاقانونیت۔خُربَة
جمع خُرَب: سوراخ، سوئی کا سوراخ (سوئی کا)
ناکہ۔ چوتڑ۔خَرِبَة: کھنڈرات (کی حالت)۔
خَرَاب: تباہی، خاتمہ، بربادی، تباہی، ٹوٹ پھوٹ،
شکستگی یا خستہ حالی کی حالت، ویرانی، تاخت و تاراج،
غارت گری، دل شکستگی، کسمپرسی (جمع اَخرِبَة)
کھنڈرات (کی حالت) خَرابَة جمع خَرابات
و خرائب: ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی عمارت، ڈھانچہ،
یا ڈھانچ، تباہی، کھنڈر۔خَربان و خِربان: تباہ کیا
ہوا، برباد کیا ہوا، مسمار کیا ہوا، ویران کیا ہوا، اجاڑا ہوا،
بیابان، اجاڑ، ٹوٹا ہوا، بگڑی ہوئی (کل، مشین)
تَخرِیب جمع تخریبات: بربادی، ویرانی، غارت،
تاراجی، تباہی، تباہ کرنا، انہدام، مسماری، توڑ پھوڑ،
تخریب کاری۔عملٌ تَخرِیبِیّ: تخریب کاری کا
عمل۔خَارِب: تباہ کرنے والا برباد کرنے والا، نیست
و نابود کرنے والا۔مُخَرِّب جمع مُخَرِّبُون: نیست
و نابود کرنے والا، تباہ کرنے والا، تخریب کار۔مُخرِب:
نیست و نابود کرنے والا، تباہ و برباد کرنے والا، تباہ کن
خَرُّوب (اسم جنس واحد خَرُّوبَة) جنوبی یورپ کا ایک
درخت اس کے بیج پیس کر سفوف کی شکل میں چاکلیٹ
کے متبادل طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ٹڈی، ٹڈی کے
انڈے کا خول، جنوبی یورپ کے مذکورہ درخت کی
پھلی، سینٹ جانس کی روٹی۔خَرُّوبَة جمع
خَرُّوبات: خشک اشیاء ناپنے ایک پیمانہ۔
○خَربَش: نوچنا، کھرچنا، چھیلنا، خراش ڈالنا، گھسیٹنا
(شکستہ لکھنا)، جلدی جلدی گھسیٹنا۔خَربُوش جمع
خرابیش: خیمہ۔مُخَربَشات: دیوار پر لکھی ہوئی
تحریر یا بنائی ہوئی تصویریں۔
○خَربَطَ ہ: کو بے ترتیب کرنا، گڈمڈ کرنا، درہم برہم کرنا
خلط ملط کرنا۔
خَربَقَ ہ: میں چھید ڈالنا، کو چھیدنا۔ خَربَق: وہ پودے
یا درخت جو دافع جنون سمجھے جاتے ہیں۔
خَرت: ا۔خَرَتَ ـُ خَرتًا الأذن: کان میں سوراخ
کرنا۔الخُرت و الخَرت جمع اَخرات و خُرُوت:
سوئی وغیرہ کا ناکہ، کہا جاتا ہے۔أضیَقُ من خرت
الابرة: سوئی کے ناکہ سے زیادہ تنگ۔ اجعلُ
العودَ فی خرت الفاس: کلھاڑی کے چھید میں لکڑی
کا دستہ لگاؤ۔المَخرُوط (مفع): پھٹے ہوئے کان،
ناک یا ہونٹ والا۔۲۔خَرَتَ ـُ خَرتًا الارضَ:
زمین کے راستوں سے واقف ہونا۔خَرِتَ ـَ خَرَتًا:
ہوشیار راہبر ہونا۔خِرِّیت جمع خَرارِیت و
خَرارِت: ماہر و ہوشیار گائیڈ جو بیابان کے پوشیدہ
را[illegible]
صاف اور کھلا راستہ۔
۳ المُخرُت و الخَرُت جمع اَخرات و خُرُوت:
سینہ کے قریب چھوٹی پسلی۔المُخرت من الذناب:
تیز رفتار بھیڑیا۔
○خَرَثَ ـُ خَرثًا ہ: میں سوراخ کرنا، کو چھیدنا،
بیدھنا، برمانا، میں برمے سے سوراخ کرنا۔خُرت و
خَرت جمع اَخرات و خُرُوت: سوراخ، چھید،
برمے کا سوراخ، آنکھ، سوئی کا ناکہ کاخ تکمہ۔ چھلا۔
خِرِّیت: تجربہ کار، ماہر، مشاق، گائیڈ۔خَرِّیت: گینڈا۔
خرث: الخرثاء: وہ عورت جس کی کوکھیں موٹی اور گوشت
ڈھیلا ہو۔الخُرثیّ: ردی گھٹیا سامان۔من الکلام:
بے فائدہ کلام۔
خرج: ا۔خَرَجَ ـُ خُرُوجًا و مَخرَجًا من موضعہ: اپنی
جگہ سے باہر نکلنا۔بہ: کو نکالنا۔علیہ: سے
لڑنے کے لئے نکلنا۔الی فلان من دَینِہ: کا
قرض ادا کرنا، چکانا۔خَرَّجَہٗ من المکان: کو جگہ سے
نکالنا۔المسألَةَ: مسئلہ کی وجہ بیان کرنا۔اَخرَجَ
الشیءَ: کو نکالنا۔خَارَجَ الشرکاء: شرکاء کا
جائداد کو آپس میں تقسیم کر لینا۔اِختَرَجَ الشیءَ: کو
نکالنا، سے استنباط کرنا۔فلانًا: سے نکلنے کے لئے
کہنا۔اِستَخرَجَہٗ: سے باہر نکلنے کے لئے کہنا۔
الشیءَ: سے استنباط کرنا۔المسألَةَ: مسئلہ کو حل
کرنا۔الخَرجَة: ایک دفعہ کا نکلنا۔الخُرَاج واحد
خُرَاجَة جمع خُرَاجات: پھوڑے، پھنسیاں،
آبلے۔الخارِج: ہر شے کا ظاہر، نکلنے والا۔الخارجة
جمع خارجات: الخارج کا مونث۔الخَارِجِیّ:
بیرونی۔الخَارِجِیّة: خارجی کا مؤنث: (دوسری
حکومتوں سے تعلقات رکھنے والا) دفتر خارجہ۔وَزِیرُ
الخَارِجِیّة: وزیر (امور) خارجہ۔الخُرجَة: بہت
نکلنے والا۔رجلٌ خُرَجَة وُلَجَة: بہت نکلنے اور داخل
ہونے والا آدمی۔الخَرَّاج: بہت نکلنے والا۔ رجل
خَرَّاجٌ وَلَّاجٌ: بڑا ہوشیار، حیلہ گر۔یومُ الخُرُوج:
عید کا دن، قیامت کا دن۔المَخرَج جمع مَخارِج
(مص) المَخرَج جمع مَخارِج (مص): نکلنے کی
جگہ، بدن انسانی میں پاخانہ کا مقام۔عند القرآء
و الصرفیین: منہ میں حرف کے نکلنے، ظاہر ہونے
اور ایک دوسرے سے ممیّز اور جدا ہونے کی جگہ۔
المُخرَج (مفع): نکلنے کی جگہ۔
۲۔خَرَجَ ـُ خُرُوجًا و مَخرَجًا فی العلم: علم میں
فائق و ماہر ہونا، نابغہ ہونا۔اِختَرَجَ الشیءَ: کو ایجاد
کرنا۔الخارِجیّ: ذاتی قابلیت سے سرداری حاصل

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنے والا اور خود بہادر اور شجاع، جب کہ سرداری نہ تو خاندانی ہو اور نہ اس کا باپ بہادر ہو۔ سبقت لیجانے والا گھوڑا جس کے ماں باپ ایسے نہ ہوں۔

۳۔ خرَجَ ـُ خُرُوجًا و مَخرَجًات الرعیّةُ علی الملك: رعایا کا بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا۔ الخارِجیّ بادشاہ سے بغاوت کرنے اور جماعت سے نکل جانے والا اور خوارج کے مذہب کا معتقد۔ الخوارج بادشاہ اور جماعت کے مخالف، باغی لوگ، جماعت سے الگ ہونے والے لوگ۔ سات بڑے اسلامی فرقے جنہیں خارجی فرقے (الفِرقُ الخارجیۃ) کہا جاتا ہے۔

۴۔ خرّجَ الارضَ زمین پر خراج مقرر کرنا، عائد کرنا۔ اَخرجَ الرجلُ خراج ادا کرنا۔ خارَجَ السیّدُ عبدہٗ آقا کا اپنے غلام سے ماہوار مقررر قم کی ادائگی کا معاملہ کرنا۔ اِستخرجتِ الارضُ زمین کا کاشت کے لئے درست کیا جانا۔ الخَرْجُ جمع اَخراج: خراج اس فرق کے ساتھ کہ خرج انسان کے عوض ہو اور خراج زمین کا مالیہ ہے، آمدنی کا الٹ یعنی خرچ۔ الخَراج (خاء کی تثلیث کے ساتھ) جمع اَخراج و اَخرِجَۃ و جمع اخاریج: زمین کا محصول، ٹیکس، جزیہ۔

۵۔ خرّجَ الولدَ فی الادب بچہ کو تربیت دینا، تعلیم دینا باآدب اور مہذب بنانا۔ تَخرّجَ تربیت و تعلیم پاکر سندیافتہ ہونا فارغ التحصیل ہونا۔ مُخرَّج و خِرّیج و متخرج فارغ التحصیل، فاضل، سندیافتہ، گریجوایٹ

۶۔ خرّجَ العملَ کام کو ایک دوسرے کے مخالف مختلف قسم اور رنگوں کا کر دینا۔ اخرجّ و اِخراجّ الحیوانُ: جانور کا سیاہ و سفید رنگ والا ہونا۔ صفت اَخرَج مونث خرجاء۔

۷۔ خرّجَ الغلامُ اللوحَ: لڑکے کا تختی کے کچھ حصے پر لکھنا اور کچھ حصہ بغیر لکھے چھوڑ دینا۔ و اَخرجتِ الراعیۃُ المرتعَ: مویشی کا چراگاہ کا کچھ حصہ چر لینا اور کچھ بے چرا چھوڑ دینا۔

۸۔ الخَرْج جمع اَخراج: اول اول گھرتے وقت کا بادل۔ الخُرْج جمع خِرَجۃ: خرجی۔

○ خرَجَ ـُ خروجًا: باہر جانا، باہر نکل جانا۔ ـ من: سے نکلنا، برآمد ہونا۔ ـ: گاڑی باہر لیجانا، سوار ہو کر نکلنا، کسی گاڑی میں باہر جانا، باہر کو بہنا، پسینہ نکلنا، زور سے چھلکنا، دور جانا، چھوڑنا، روانہ ہونا۔ سونے کے لئے جانا، باہر کو نکلنا، آگے کو نکلنا، باہر کو نکلا ہوا ہونا۔ ـ من کو ترک کرنا، سے اترنا، سے باہر نکلنا، سے نکلنا، جاری ہونا، ظہور ہونا، پیدا ہونا، سے شروع ہونا، آغاز ہونا، کے نتیجہ میں واقع ہونا۔ ـ عن: سے علیحدہ ہونا، الگ ہونا، کی رکنیت چھوڑنا سے قطع تعلق کر لینا، کے مخالف رائے رکھنا یا کے مخالف رائے کا اظہار کرنا سے اختلاف رکھنا، کسی انتظام یا اصول سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا۔ سے مستثنیٰ ہونا، دیئے ہوئے موضوع سے باہر ہونا، خارج از موضوع ہونا، موضوع سے آگے چلا جانا، تجاوز کرنا، سے الگ، مختلف، جدا یا علیحدہ ہونا، سے غیر متعلق ہونا، میں شامل نہ ہونا، سے متعلق نہ ہونا۔ لایخرج عن ہٰذا یہ ...... تک محدود ہے، یہ صرف ...... ہے، ـ (جنگ میں جانا، ـ علی پر حملہ کرنا، دھاوا بولنا، کے خلاف لڑنا، کے خلاف بغاوت کرنا، ـ علی: (قاعدہ، قانون) کی خلاف ورزی کرنا، کو توڑنا، خرَجَ علیہ ب: کا کے ساتھ سامنا کرنا، سے کیساتھ بات کرنا، ـ ب: کو باہر نکالنا، باہر لانا، بے دخل کرنا، نکال دینا، ـ ب عن: کو سے باز رہنے کو کہنا۔ ـ ب: کو دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ خرج عن الخط (ٹرین کا) پٹری سے اتر جانا۔ خرّجَ ہٗ: کو باہر نکالنا، کو ہٹانا، بے دخل کرنا، جلا وطن کرنا، نکال دینا۔ ـ ہٗ: کو خارج کرنا، مستثنیٰ کرنا، ـ ہٗ فی: کی (کسی ہنرمندی وغیرہ میں) تربیت کرنا۔ ـ ہٗ: کو تعلیم دینا، کی تربیت کرنا، ـ ہٗ: کو مقطر کرنا، کشید کرنا، نکالنا، زور لگا کر نکالنا، کو اکٹھا کرنا سے نتیجہ نکالنا یا اخذ کرنا مستنبط کرنا، کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا، کو واضح کرنا، کی توضیح کرنا، کی تفسیر بیان کرنا۔ اَخرَجَ ہٗ: کو جہاز یا ٹرین سے اتارنا (جیسے فوجوں کو جہاز یا ٹرین سے ارنا) کو بے دخل کرنا۔ ـ ہٗ: (برقی لہروں وغیرہ) کو نکالنا، چھوڑنا۔ (زبان وغیرہ کا) نمایاں ہونا نکلنا، کو ڈھونڈ کر نکالنا، عوام کے علم میں لانا، کو نکالنا، زور لگا کر نکالنا، ـ ہٗ من: کو (ملک) سے جلاوطن کرنا، بے دخل کرنا، کو سے جلاوطن کرنا، کو (کسی عہدہ) سے برخاست کرنا، نکال دینا، ہٹا دینا۔ اخرجہ من ثروتہٖ: کی جائداد لوٹ لینا، کو اس کی دولت سے بیدخل کرنا، کی جائیداد غصب کرنا۔ ـ ہٗ: سر وغیرہ نکالنا، (رائے) پیش کرنا، بیان کرنا، ظاہر کرنا۔ ـ ریحًا: پادمارنا۔ ـ ہٗ: کو تعلیم دینا، کی تربیت کرنا، کو تربیت دینا، ـ ہٗ: (کھیل، ڈرامہ وغیرہ) کرنا، سٹیج پر لانا، پیش کرنا، ـ روایۃً: فلم) بنانا، کی شوٹنگ کرنا، پیش کرنا، ـ روایۃً: (فلم) بنانا، کی شوٹنگ کرنا، (کو) فلمانا، ـ ہٗ عن: کو سے مستثنیٰ کرنا، خارج کرنا۔ ـ: کو نکالنا، کھینچ کر نکالنا، زور سے نکالنا، کو منتخب کرنا، چننا۔ تَخرّجَ تعلیم یافتہ ہونا۔ ـ فی / من: سکول کالج میں تربیت حاصل کرنا۔ ـ فی: کسی شعبہ میں تربیت حاصل کرنا، ـ فی / من: کسی سکول کالج سے فارغ التحصیل ہونا، فاضل ہو کر نکلنا، سند یافتہ ہونا۔ تَخارَجَ: جدا ہونا، الگ ہونا، ایک دوسرے سے پیچھے ہٹنا، الگ ہونا، میل جول نہ رکھنا، مراسم نہ ہونا، دور رہنا۔ ـ عن لِ: کو کے حوالے کرنا، کو کسی کو منتقل کرنا، کو کسی کو سونپنا، تفویض کرنا۔ اِستَخرَجَ ہٗ من کو سے نکالنا، ـ ہٗ: (معدنیات) کو کان سے نکالنا، حاصل کرنا، کو سے بنانا، حاصل کرنا، کو سے نقل کرنا، اقتباس کرنا، انتخاب کرنا، کو سے حاصل کرنا، مشتق کرنا، لینا، وصول کرنا، پانا، نکالنا، سے نتیجہ نکالنا یا اخذ کرنا، سے حساب کا سوال نکالنا، سے کا حساب لگانا، سے کو گننا۔ ـ ہٗ من: کوئی چیز جیسے تعجب، تعریف وغیرہ کسی سے کرانا، ـ ہٗ: کو دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ خَرْج. خرچ، صرفہ، رقم، لگا ہوا سرمایہ، خرچہ، زمین کا لگان، محصول، کوئی مناسب و موزوں چیز، جو کسی شخص کا جائز حق ہو، جس کا کوئی شخص مستحق ہو، جس کی کسی شخص کو ضرورت ہو، راشن (خوراک) جمع خروجات: گوٹ، لیس، فیتہ، کناری وغیرہ، کنارہ، کور، حاشیہ، مغزی، سنجاف (جمع): لیس، فیتہ، جھالر، کلابتون، (کھانے کی چیز کے) لوازمات۔ ھٰذا خرجُك: یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں ضرورت ہے، جس کے تم مستحق ہو، خرجُ المَشنقَۃ: پھانسی پر لٹکائے جانے کا مستحق، خُرج جمع خِرَجَۃ: خورجین، تھیلا، سفری جامہ دان۔ خُرْجَۃ جمع خُرَجات: باہر جانے کا راستہ، روانگی، آگے کو نکلا ہوا حصہ، گلٹی، گومڑا، آساس، ورم پھولن، ابھار، سوجن، چھجا، پہاڑ کا سامنے کا نکلا ہوا حصہ، نکلا ہوا حصہ، جنازہ، کفن، خَراج: خراج، ٹیکس، زمین کا محصول، خراجی: زمین کے محصول سے متعلق، یا زمین کے محصول (خراج) کا، خراجی ٹیکس لگے اور قابل کاشت رقبہ کا یا سے متعلق۔ خُراج (اسم جنس واحد خُراجَۃ جمع خُراجات) پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ، گومڑا، گلٹی، دنبل، سخت ابھار۔ خُروج: باہر نکلنا، خروج، آشکارا ہونا، ظاہر ہونا، روانگی، بنی اسرائیل کا مصر سے کوچ، ترک وطن، ہجرت، جلاوطنی۔ ـ علی: کے خلاف حملہ، پر یورش، محاصرہ سے نکل کر حملہ، پر حملہ، خروج۔ عن الخط: ٹرین کا پٹری سے اتر جانا، خِرّیج جمع خِرّیجون (سکول کالج یا یونیورسٹی کا) گریجوایٹ، سندیافتہ، فاضل۔ مَخرَج

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جمع مَخَارِج: باہر نکلنے کی جگہ، (کسی مشکل صورت حال سے) باہر نکلنے کا راستہ، نکاس، خلاصی، فرار، بچ نکلنے کی صورت، نقل مکانی، داؤ پیچ، چال، بچنا، عذر، معذرت، اعتذار، صاف تلفظ، قطب منفی، منفی برقیرہ، علم مخارج الحروف: صوتیات۔ تولی الاخراجَ: (فلم، تھیٹر کی) ہدایت کاری کرنا۔ مِن اخراجِ: کی ہدایت کاری (والی فلم)۔ تَخَرُّج (سکول کالج سے) گریجوایشن، سند فضیلت، فارغ التحصیل ہونا۔ خارج باہر کا، بیرونی، غیر ملکی۔ بیرونی ملک، ممالک، حاصل تقسیم، خارجِ قسمت (حساب میں)، خارجَ: کے باہر، خارجا: باہر، خارجًا من: کے باہر، کے علاوہ، سے قطع نظر، فی الخارج: ملک سے باہر، پردیس میں، غیر ممالک میں، باہر۔ الی الخارج: ملک سے باہر، پردیس میں، غیر ممالک کو، بیرونی دنیا کو، باہر، باہر کی طرف الخارجہ: وسطی مصر کا ایک شہر، خارگہ نخلستان میں۔ خارِجی: بیرونی، باہر کا، غیر ملکی، غیر مقیم۔ عِيَادَة خارِجِيَّة: ہسپتال کا بیرونی مریضوں کا شعبہ۔ وزارة الخارجیہ: وزارت خارجہ۔ وزارت امور خارجہ تلمیذ خارجی: دن کا طالب علم، طالب علم جو بورڈنگ سکول میں نہ رہتا ہو۔ خوارِج: (اسلام کا قدیم ترین مذہبی فرقہ، خوارج، اختلاف رائے کرنے والے، اکثریت کی رائے کے مخالف، برگشتہ ہونے والے، باغی لوگ، منحرفین، مُخرِج جمع مُخرجون (سکرین یا سٹیج کا) ہدایت کار۔ مُخرَج: (کتاب وغیرہ سے) اقتباس، انتخاب، خلاصہ، مُخرَجات: بول و براز فضلہ گوبر۔ مُتَخَرِّج من یافی (کسی سکول یا کالج کا) سند یافتہ، فارغ التحصیل۔ مُستَخرَج جمع مستخرجات: اقتباس۔ —من: سے اقتباس: کی جزوی نقل۔ اخراج: تخارج اور استخراج کے معنی کے لئے ان کے افعال اخرجَ، تخارَجَ و اِستخرجَ سے رجوع کریں۔

خرد: ۱۔ خرِدَ ـَ خَرَدًا۔ خرگات الجاریةُ لڑکی کا باکرہ ہونا، دوشیزہ ہونا۔ —الرجلُ: دیر تک خاموش رہنا، باتیں کم کرنا۔ —اخرَدَ الغلام: لڑکے کا ذلت کی وجہ سے شرم کرنا۔ —الرجلُ دیر تک خاموش رہنا، باتیں کم کرنا۔ تخرّدتِ الجاریةُ: لڑکی کا باکرہ ہونا، دوشیزہ ہونا۔ الخَرُود والخرید جمع خرائد و خُرُد خُرَّد: باکرہ لڑکی، شرمیلی، زیادہ تر خاموش رہنے والی اور نیچی آواز میں بولنے والی لڑکی۔ صوتٌ خریدٌ: نرم حیادار آواز۔ لؤلؤۃ خرید: ناشفتہ موتی۔ الخَرِيدَة جمع خَرائِد و خُرُد و خُرَّد: باکرہ، زیادہ تر خاموش، نیچی آواز میں بولنے والی شرمیلی لڑکی، ناسفتہ موتی۔

۲۔ أخرَذَ الی اللهو: لہو کی طرف مائل ہونا۔

۳۔ الخُردَة: چھوٹا چھوٹا متفرق ساز و سامان (فارسی لفظ) الخُردَجی: خردہ بیچنے والا، معمولی تاجر، بساطی۔

۴۔ خَردَقَ العملَ: کام کو بگاڑنا (عام زبان میں)، فصیح عربی میں اسے خَربَقَ کہتے ہیں۔ الخُردُق (اع): سرمہ یا سکہ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں (ترکی لفظ)۔

۵۔ خَردَلَ الطعام: کھانے کا اچھا حصہ کھانا۔ —اللحمَ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹنا۔ الخَرادِل (ط): گوشت کے ٹکڑے۔ لحمٌ خَرادِيل: ٹکڑے کیا ہوا گوشت۔ الخَردَل واحد خَردَلَة (ن): رائی، الخردلیّة (ز) مستطیل کھلا اور خشک پھل جو دو چھلکوں سے مرکب ہوتا ہے اور دیوار کی طرح ہوتا اور پکنے پر پھل کو دو قسموں میں تقسیم کر دیتا ہے۔

○ خَرِدَ ـَ: باکرہ ہونا، معصوم اور پاکدامن ہونا۔ خَرِیدَة جمع خرائِد و خُرُد: باکرہ، ناسفتہ موتی خُردَة: ردی دھات، ردی لوہا۔ جمع خُردَوات: فروخت کی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے، متفرق چھوٹی چھوٹی چیزیں، فروخت کی نرالی چیزیں، خواتین کے لئے رنگ برنگ کی چیزیں، سجاوٹی سامان۔ خُردَجی: چھوٹی متفرق چیزیں بیچنے والا۔ خردَق اور خُردُق: چھرہ، کارتوس۔

○ خَردل (اسم جنس واحد خَردَلَة: رائی، رائی کے بیج۔

خرز: ۱۔ خَرَزَ ـُ خَرزًا الجلدَ: کھال کو ستالی سے سینا۔ الخَرَز (واحد خَرَزَة): ڈور میں پروئے ہوئے گھونگھے، سلیمانی منکے یا کوڑیاں شیشے وغیرہ کے سوراخ دار دانے۔ پتھر (جیسے الماس اور یاقوت) کے نگینے۔ خرزُ الظهر: ریڑھ کی ہڈی کے منکے۔ خرزات الملِك: بادشاہ کے تاج کے جواہر۔ الخُرزَة جمع خُرَز: سوراخ اور اس کا دھاگا۔ الحرِیز (طب): نقرس بیماری جیسا درد۔ المِخرَز جمع مَخارِز: ستالی۔ الخِرازَة: موچی کا پیشہ۔ الخرّاز: موچی۔ المُخرَّز من الطیور: وہ پرندہ جس کے بازوؤں پر پھنسیاں پڑی ہوں۔

۲۔ خَرَزَ ـَ خَرزًا: کمزوری کے بعد اپنے معاملہ کو درست اور مستحکم کرنا۔

○ خَرَزَ ـُ خَرزًا ہ: کو چھیدنا، برمانا، میں سوراخ کرنا، بدھنا۔ خَرَز (اسم جنس واحد خرزَة): موتی۔ [illegible] کرنے کا آلہ چھیدنے کی مشین، پنچ، مِخراز: بمعنی مِخرَز۔

خرس: ۱۔ خَرِسَ ـَ خَرَسًا: گونگا ہونا، کی آواز سنائی نہ دینا۔ أخرَسَہُ اللّٰه: اللہ کا کسی کو گونگا بنانا۔ تخارَس: بناوٹی گونگا بننا۔ الأخرَس جمع خُرس وخُرسان و اخارِس مؤنث: خرساء: گونگا، کہا جاتا ہے: ولانی عُرضًا اخرَسَ امرسَ: اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور بات نہیں کی۔ الخَرساء: الاخرس کا مؤنث۔ نہ گرجنے اور نہ چمکنے والا بادل، کتیبة خرساء چپ بے آواز بٹالین۔

۲۔ خَرَّسَ علی النُّفَساء: زچہ کو اس کی خوراک دینا۔ تخرَّسَتِ النُّفَساءُ: زچہ کا اپنے لئے کھانا تیار کرنا۔ اس سے ضرب المثل ہے: تخرَّسِی یا نفسُ لا مخرِّسَةً لكِ: تو اپنا کام خود ہی کر کوئی دوسرا کام کرنے والا نہیں۔ الخُرسُ والخِراس (ط): بچہ کی پیدائش کا کھانا۔ الخُرسَة والتَّخرِسَة (ط): زچہ کا مخصوص کھانا۔ اچھوانی، الخَروُس: عورت جو پہلی بار حاملہ ہو، زچہ جس کے لئے اچھوانی تیار کی جائے۔

۳۔ أخرَسَ و استخرست الارضُ: زمین کا ناقابل زراعت ہونا۔ الخِرس: زراعت کے ناقابل زمین۔

۴۔ الخَرس والخِرس جمع خُرُوس: مٹکا الخَرّاس: مٹکے بیچنے والا، مٹکے بنانے والا اللبنُ أخرَس: جما ہوا دودھ الخرساء: مصیبت۔

○ خَرِسَ ـَ خَرَسًا: گونگا ہونا، خاموش ہو جانا خاموش رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ أخرَسَ ہ: کو خاموش کرنا، کی زبان بندی کرنا۔ خرَس: گونگا پن أخرَس مونث خرساء جمع خُرس و خرسان: گونگا خُرسان: گونگا۔ خَرسان و خَرسانة: کنکریٹ، (کنکریٹ اور سیمنٹ کا مرکب) خَرسانةٌ: کنکریٹ، (کنکریٹ اور سیمنٹ کا مرکب) خَرسانةٌ مُسلَّحَة: کنکریٹ جس میں دھات کا سریا یا تاریں شامل کی گئی ہوں، تاکہ مزید مضبوط ہو جائے۔

خرش: ۱۔ خَرَشَ ـِ خَرشًا و خَرَّشَ ہُ: کو خراش لگانا، کھرچنا۔ —ہ الذبابُ: کو مکھی کا کاٹنا۔ خارَشَ الكلبَ: کتے کو برانگیختہ کرنا۔ —ہ: کو خراش لگانا —ہ الذبابُ: کو مکھی کا کاٹنا۔ تخارَشَاتِ الكلابُ: کتوں کا ایک دوسرے پر حملہ کر کے نوچنا، پھاڑنا۔ اخترَشَ ہ: کو خراش لگانا۔ —ت الجراءُ: کتوں کے بچوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ —ہُ الذبابُ: کو مکھی کا کاٹنا۔ الخَرَش (واحد خَرَشَة) جمع

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

خُرُوش (ح): مکھی۔

۲۔خَرَشَ ـِ خَرْشًا الغُصْنَ: ٹہنی کو ٹیڑھی چھڑی سے اپنی طرف کھینچنا۔ لِعِيالِه: بچوں کے لئے رزق طلب کرنا، کمانا۔خَرَّشَ الغصن: ٹہنی کو ٹیڑھی چھڑی سے اپنی طرف کھینچنا۔خَارَشَهُ الشَّيءَ: سے چیز چھیننا، زبردستی لے لینا۔اِخْتَرَشَ لعياله: بال بچوں کے لئے رزق طلب کرنا، کمانا۔ منه الشيءَ: سے کوئی چیز چھیننا، زبردستی لے لینا۔المِخْرَش و المِخْراش: ٹیڑھی چھڑی۔ عام لوگ اسے مُعْكُورَة کہتے ہیں۔

۳۔الخَرْش جمع خُرُوش: گھر کا ردی پرانا سامان۔ الخُراشَة: برادہ، کہا جاتا ہے لي عنده خُراشَة: اس کے پاس میرا تھوڑا سا حق ہے۔الخِرشاء جمع خَراشيّ: سانپ کی کینچلی، انڈے کا چھلکا، غبار۔ خِرْشاءُ العسل: موم، وہ شہد جس میں مردہ مکھیاں پڑی ہوں۔

۴۔خَرْشَبَ العملَ: کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔

۵۔الخَرْشَفَة: مختلف کام، حرکت۔—والخِرشاف: سخت زمین جس پر چلنا دشوار ہو۔الخُرْشُوف (ن): ایک قسم کا خاردار پودا۔ (عام زبان میں)

۶۔الخرشوم جمع خَراشيم: وادی یا ہموار زمین پر نکلی ہوئی پہاڑ کی چوٹی، بڑا پہاڑ۔

○خَرْشُوف (اسم جنس واحد خُرْشُوفَة) جمع خَراشِيف: خرشف، ہاتھی چوک۔ (اسے أرضي شَوْكي بھی کہا جاتا ہے یہ ایک قسم کا پودہ ہے جس کے پھول کو سبزی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے)۔

خرص: ۱۔خَرَصَ ـِ خَرْصًا: جھوٹ بولنا۔تَخَرَّصَ و اِخْتَرَصَ عليه: پر بہتان باندھنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا۔الخَرّاص: جھوٹا۔

۲۔خَرَصَ ـُ خَرْصًا في الأمر: کے بارے میں قیاس آرائی کرنا، اندازہ لگانا، اٹکل سے کہنا۔—ہُ: کا اندازہ کرنا۔ کہا جاتا ہے خَرَصَ النخلةَ: اس نے کھجور کے درخت پر پھل کا اندازہ لگایا۔الخِرْص: اندازہ کہا جاتا ہے۔ کم خِرْصُ أرضك: تمہاری زمین کا اندازہ اور تخمینہ کیا ہے؟

۳۔خَرَصَ ـُ خِراصةً الشيءَ: کو درست کرنا۔

۴۔خَرِصَ ـَ خَرَصًا: کو بھوک لگنا، ٹھنڈ لگنا۔ صفت: خَرِص و خارِص۔

۵۔تَخَرَّصَ و اِخْتَرَصَ: توشہ دان میں مطلوبہ چیز رکھنا۔ الخِرْص: توشہ دان۔

۶۔الخِرْص: چھوٹا نیزہ، مٹکا، ٹوکری۔— و الخُرْص جمع خِرْصان و خُرْصان: سونے چاندی وغیرہ کی انگوٹھی۔—جمع خِراص و أخْراص: کھجور کی شاخ۔—والخَرَص جمع اخراص: شہد نکالنے کی لکڑی۔الخُرْصَة: حصہ، زچہ کا کھانا۔الخَرِيص: ٹھنڈا پانی، درختوں کی جڑوں میں جمع شدہ پانی۔ دریا کا کنارہ یا پہلو۔المِخْرَص جمع مَخارِص: نیزہ۔

○خَرَصَ ـُ خَرْصًا ہ: کا تخمینہ لگانا، قیاس لگانا، کو اٹکل یا اندازہ سے کہنا، کا اندازہ کرنا، اندازہ لگانا، کے بارے میں قیاس آرائی کرنا، کے بارے میں اندازے لگانا۔—: جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا۔تَخَرَّصَ علی: کے خلاف جھوٹ گھڑنا، جھوٹے الزامات تراشنا، الزام تراشی کرنا۔خِرْص و خُرْص جمع خِرْصان و خُرْصان: (کان کی) بالی، آویزہ بندہ۔خَرّاص جمع خَرّاصون: جھوٹا، افترا پرداز مفتری، بدگو۔

خرط: ۱۔خَرَطَ ـُ خَرْطًا العودَ: خراد سے لکڑی کو برابر اور ہموار کرنا۔الخَرّاط: خرادیہ۔الخُراطَة: برادہ۔ الخِراطَة: خرادے کا پیشہ۔المِخْرَطَة جمع مَخارِط (حی): خراد۔المَخْرُوط: خراد کیا ہوا۔

۲۔خَرَطَ ـُ خَرْطًا الورقَ: درخت کے پتے ہاتھ کے ساتھ کھینچ کر اتارنا۔—الشجرةَ: درخت کے پتے کھینچ کر اتارنا۔ ضرب المثل ہے دونَ ذلك خَرْطُ القَتاد: یہ کام کرنے سے پہلے، آدمی کو ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا۔—العنقودَ: انگور کا خوشہ منہ میں رکھ کر، بغیر دانہ کے نکالنا۔اِخْتَرَطَ العنقودَ: انگور کے نمونہ کو منہ میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا۔المَخْرُوط: تھوڑی داڑھی والا۔

۴۔خَرَطَ ـُ خَرْطًا الحديدَ: لوہے کو لمبا کرنا۔اِنْخَرَطَ الجسمُ: جسم کا دبلا اور لاغر ہونا۔الخَرَط: جسم کی کمزوری۔المَخْرُوط: لمبا چہرہ، مخروطی شکل والا تنگ کنواں۔

۵۔خَرَطَ ـِ خَرْطًا الجَواهِرَ: جواہرات کو تھیلے میں ڈالنا۔— الرجل في الامر: کو کسی کام میں شامل کرنا۔اِنْخَرَطَت الخَرَزةُ في السلك: منکوں کا ڈورے میں پرو دیا جانا۔—في المكان: کسی جگہ جلدی سے داخل ہونا۔الخَرِيطَة: چمڑے وغیرہ کی تھیلی۔

۶۔خَرَطَ ـِ خَرْطًا البازيَ: باز کو شکار پر چھوڑنا۔ تَخَرَّطَ في الامور: معاملات میں دلیری و خودسری کرنا۔اِنْخَرَطَ الصقرُ: شکرے کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔—من المكان: کسی جگہ سے نکلنا۔—في الامر: کسی کام میں جہالت و نادانی سے لگ جانا کہا جاتا ہے: انخرط علينا بالقبيح: وہ ہماری طرف فحش گوئی اور بد زبانی سے متوجہ ہوا۔اِخْتَرَطَ السيفَ: تلوار سونتنا۔ اِسْتَخْرَطَ في البكاء: پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ الخَرُوط جمع خُرُط: منہ زور جانور، بے عقلی اور نادانی سے کاموں میں دخل دینے والا۔

۷۔خَرَطَ ـُ خَرْطًا الرجلَ: جھوٹ بولنا۔ الخَرّاط: جھوٹا۔

۸۔خَرَطَ ـِ خَرْطًا ہُ الدواءُ: دوا کا پیٹ کو نرم کرنا اور دست لانا۔خَرِطَ ـَ خَرَطًا و أخْرَطَتِ الشاةُ او الناقةُ: بکری یا اونٹنی کو خَرَط کی بیماری لگنا۔خَرَّطَهُ الدواءُ: دوا کا کسی کے پیٹ کو نرم کرنا اور دست لانا۔ اِنْخَرَطَ بطنُ الانسان: کو اسہال کی شکایت ہونا۔ الخَرَط (طب): جانوروں کی ایک بیماری جس کی وجہ سے تھنوں سے جما ہوا دودھ نکلتا ہے۔المُخْرِط جمع مَخارِيط: بکری یا اونٹنی جسے تھنوں سے جما ہوا دودھ نکلنے کی بیماری لاحق ہو۔

۹۔خَرِطَ ـَ بالطعام: کھانے سے پھندا لگنا۔

۱۰۔الخَرِيطَة: زمین یا اس کے کسی حصہ کا نقشہ اسے خارِطة بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی فصیح عربی المُصَوَّر یا المُخطَّط ہے۔المَخْرُوطَةُ من الآبار: تنگ کنواں۔الخِرطِيط جمع خَراطِيط (ح): منقش پاؤں والی تیتری / تتلی۔

۱۱۔الخُرْطال (ن): جَی۔

۱۲۔خَرْطَمَهُ: کے سونڈ پر مارنا۔اِخْرَنْطَمَ: ناک اونچی کرنا، تکبر کرنا۔الخُرْطُوم جمع خَراطِيم و الخُرْطُم جمع خَراطِم: ناک، ہاتھی کی سونڈ۔ خَراطِيمُ القوم: قوم کے سردار۔

۱۳۔اِخْرَنْطَمَ: غضبناک ہونا۔الخُرْطُوم و الخُرْطُم: جلد نشہ لانے والی شراب، انگور کا پانی جو ملنے سے پہلے نکلے۔

۱۴۔الخُرْطُون جمع خَراطِين (ح) کیچوا۔

○ خَرَطَ ـُ خَرْطًا ہ: درخت سے پتے اتارنا (لکڑی، دھات) کو خراد کرنا، کو خراد سے کوئی شکل دینا۔—: مبالغہ کرنا، جھوٹ بولنا، شیخی بگھارنا، ڈینگ مارنا، خودستائی کرنا، لاف زنی کرنا۔—ـُ ہ: گوشت، گاجریں وغیرہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا، کا قیمہ کرنا، پارہ پارہ کرنا، چوکور شکل میں کاٹنا۔خَرَّطَ ہ: گوشت گاجروں وغیرہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا چوکور شکل میں کاٹنا، کا قیمہ کرنا، کو پارہ پارہ کرنا۔ اِنْخَرَطَ: خراد سے کوئی شکل دیا جانا، خراد پر چڑھنا۔ —في / في سلك: (کسی تنظیم اتحاد وغیرہ) میں

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شامل ہونا، سے الحاق کرنا، تعلق قائم کرنا۔ -فی: میں گھس جانا، کے آر پار ہو جانا، میں سرایت کرنا، جلد بازی سے یا جھٹ پٹ کود جانا، میں عاقبت نا اندیشی سے حصہ لینا۔ -: محنت کرنا، مشقت کرنا، جدوجہد کرنا، سخت محنت کرنا۔ -فی البکاء پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ خَرُط: پتے اتارنا، خراد کا کام، خراد کی مشین، خراد کا کارخانہ۔ خَرَّاط جمع خَرَّاطون: خراد پر کام کرنے والا، خرادیا، ڈینگیا، لاف زن، لپاٹیا، شیخی باز، دھونس جمانے والا، قصہ گو۔ خِراطَة: خرادے کا کام، خراد کا فن، خراد کی دکان۔ خَرَّاطَة: لہنگا، سکرٹ۔ خَرِيطَة جمع خَرائِط و خُرُط: نقشہ، چارٹ۔ مِخْرَطَة و مَخْرَطَة جمع مَخارِط: خراد (کی مشین) خارِطَة جمع خارِطات: نقشہ، چارٹ۔ مَخْرُوط: مخروط، مخروطہ، مخروطی۔ مَخْرُوطی: مخروطی۔

○ خَرْطُوش و خرطوشة جمع خَراطِيش: کارتوس، (پنسل کا) سکہ، توشہ دان، کارتوس کی پیٹی، بہی، روزنامچہ۔ خُرْطُوم جمع خَراطِيم: ناک، تھوتھنی، سونڈ (ہاتھی کی)، چمڑے یا ربڑ کی نالی۔ خراطین: زمین کے کیڑوں کی ایک قسم۔ خَراطِينی: کیڑے جیسا۔ خَرْطِيط: گینڈا۔

خرع ا۔ خَرَعَ - خَرْعاً ہُ کو پھاڑنا۔ خَرِعَ - خَرَعاً الشیءُ: چیز کا ٹوٹنا۔ اِنْخَرَعَتِ القناة: نلکی کا پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اِخْتَرَعَ الشیءَ: چیز کو پھاڑنا۔

۲۔ خَرُعَ - خَرَعَةً و خُرْعاً و خُرُوعاً: نرم اور ڈھیلے جوڑوں والا ہونا صفت: خَرِع و خَرِيع، خَرِعَ - خَرَعاً و اِنْخَرَعَ و تَخَرَّعَ الرجل: پست ہونا کمزور جسم کا ہونا، کمزور رائے والا ہونا۔ الخَرِيع من الرجال: کمزور آدمی۔ -والخَرُوع جمع خَرائِع و خُرُوع من النساء: نرمی و نزاکت سے جھکنے والی عورت۔ الخِرْوَع: خوش حال۔ کہا جاتا ہے۔ عَيْشٌ خِرْوَع: خوش حال زندگی۔ -جمع خَرائِع و خُرُوع من النساء: نرمی و نزاکت سے جھکنے والی عورت۔ (ن): ارنڈی کا پودہ جس سے کسٹرائل بنتی ہے۔

۳۔ خَرَّعَ الثوبَ بالخِرِيع: کپڑے کو عصفر (کسم) کے رنگ میں رنگنا۔

۴۔ اِخْتَرَعَ الشیءَ: کو پیدا کرنا ایجاد کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ اِخْتَرَعَ اللّٰه الکائنات: اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی یعنی عدم سے وجود میں لانا۔

۵۔ اخْتَرَعَ فلاناً: کے ساتھ خیانت کرنا، کو دھوکا دینا۔

۶۔ اِخْتَرَعَ الدابّةَ: کسی کے جانور کو بیگار کے طور پر چند دن کے لئے لینا اور پھر واپس کر دینا۔

۷۔ الخَراعة: بیباکی۔ الخُراع: اونٹنی کی دیوانگی اونٹنی کی پشت کی شکستگی۔ الخَرِيع و المَخْرُوعة من النِياق: دیوانی اونٹنی۔

○ خَرُعَ - خُرْعاً و خراعَةً و خَرِعَ - خَرَعاً: خمیدہ ہونا، ڈھیلا، کمزور، کاہل یا سست ہونا یا ہو جانا، لنگڑانا، پلپلا ہونا یا ہو جانا، نرم ہونا یا ہو جانا، بزدل، بے ہمت یا غیر مستقل مزاج ہو جانا مان جانے والا ہونا۔ اِنْخَرَعَ: بمعنی خَرُعَ و خَرِع، اِخْتَرَعَ ہ کو ایجاد کرنا، اختراع کرنا، کا بندوبست کرنا، کو تخلیق کرنا، پیدا کرنا، کو وجود میں لانا۔ خَرِع و خَرِيع: نرم، ملائم، مان جانے والا، بزدل، بے ہمت، غیر مستقل مزاج، مردہ دل، طاقت سے محروم، جلد گھبرا جانے والا۔ خِرْوَع: ارنڈی کا پودہ اِخْتِراع جمع اِخْتِراعات: ایجاد۔ مُخْتَرِع جمع مُخْتَرِعُون: ایجاد کرنے والا، موجد۔ مُخْتَرَع جمع مخترعات: ایجاد، ایجاد کی ہوئی چیز۔

خرف ا۔ خَرِفَ - و خَرُفَ - خَرَفاً: بڑھاپے کی وجہ سے فاسد العقل ہونا صفت: خَرِف مونث خَرِفَة۔ خَرَّفَ ہُ: کو فساد عقل کی طرف منسوب کرنا۔ اَخْرَفَ ہُ: کو خراب کرنا، فاسد کرنا۔ الخَرافَة: بے عقلی کی ہنسی والی بات۔ المَخْرَفَة: بڑھاپے کی وجہ سے عقل کی خرابی۔

۲۔ خَرَفَ - خَرْفاً و خِرافاً و خَرافاً و مَخْرَفاً الثمرَ: پھل چننا۔ أَخْرَفَ الثمرُ: پھل توڑنے کا وقت قریب آجانا۔ اِخْتَرَفَ الثمرَ: پھل چننا۔ الخَراف و الخِراف: پھل چننے کا زمانہ۔ الخُرْفَة: چنا ہوا میوہ۔ الخُرافَة: چنا ہوا پھل۔ الخَرُوفَة: کھجور کا وہ درخت جس کا پھل توڑا جائے۔ الخَرِيف: تازہ چنی ہوئی کھجور۔ الخَرِيفة: کھجور کا درخت جس سے تر کھجوریں توڑی جائیں۔ المِخْرَف جمع مَخارِف: چھوٹی ٹوکری جس میں عمدہ تازہ کھجوریں ڈالی جائیں۔ المَخْرَفة جمع مَخارِف: کھجور کے درخت کی دو قطاروں کے درمیان کا راستہ جن میں سے کسی ایک سے کھجوریں چنی جائیں۔

۳۔ خُرِفَ الارضُ: زمین پر خریف کی بارش برسنا۔ صفت: مَخْرُوفَة۔ -تِ البهائمُ: چوپایوں پر موسم خریف آجانا، چوپایوں کے چرنے کی لائق سبزہ اگ آنا۔ خارَفَ مُخارَفَةً و خِرافاً ہُ: سے موسم خریف میں معاملہ کرنا۔ أَخْرَفَتِ الشاةُ: بکری کا موسم خریف میں بچہ جننا۔ -الرجلُ: موسم خریف میں داخل ہونا۔ اِخْتَرَفَ فی مکان: کسی جگہ موسم خریف میں اقامت کرنا۔ الخَرِيف: موسم گرما اور سرما کے درمیان کا موسم۔ اس موسم کی بارش۔ نسبت کے لئے: خَرِيفیّ و خَرْفیّ و خَرَفیّ۔

۴۔ الخُرافَة جمع خُرافات: بیہودہ بات الخَرُوف جمع خِراف و اَخْرِفَة و خِرفان (ح): بکری کا بچہ۔ الخَرُوفَة (ح) بکری کا مادہ بچہ۔ المُخارَف من الرجال: محروم آدمی۔

۵۔ خَرْفَشَ الشیءَ: کو ملانا، خلط ملط کرنا، گڈمڈ کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: خَرْفَشَ فی کلامه: اس نے تہذیب سے گری ہوئی یا بے معنی بات کی۔

○ خَرِفَ - خَرَفاً: سٹھیانا، دماغ میں خلل آجانا مخبوط الحواس ہونا، پیرانہ اور کم ہمت ہونا، احمقانہ باتیں کرنا۔ خَرَف: کم ہمتی، ضعف عقل، پیری، کہن سالی، طفل مزاجی (بوڑھے شخص کی)۔ خَرِف و خَرِفان: کم ہمت، سترا بہترا، جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو۔ سٹھیا ہوا، طفل مزاج، بچوں جیسا۔ خَرِيف: پت جھڑ، خزاں۔ خَرِيفی: خزان، خزاں کے متعلق خَرُوف جمع خِراف و اَخْرِفة و خِرفان: بھیڑ یا مینڈھے کا بچہ، برہ، جانور کا ایک بچہ، خُرافَة جمع خُرافات: ضعیف الاعتقادی، اوہام پرستی توہم، بے سروپا بات، کہانی، من گھڑت قصہ، جھوٹی بات۔ خُرافی: افسانوی، گھڑا ہوا، غیر حقیقی، فرضی، روایتی، من گھڑت۔ مَخْرَفَة: بچوں کی سی باتیں، احمقانہ باتیں، بکواس، بیہودہ باتیں۔ تَخْرِيف: بیوقوفی، حماقت، احمقانہ باتیں، وسوسہ، توہم، بکواس، بیہودہ باتیں، مُخَرِّف: بچوں کا سا، احمقانہ بیوقوف، احمق۔ جمع مُخَرِّفون: بچوں کی طرح باتیں کرنے والا، بک بک کرنے والا، گپی، باتونی، بکی مقرر، ڈینگیا، ڈھونگیا۔

○ خُرْفُوشَة جمع خرافیش: قیمت کا کارڈ، وہ پتہ جو چھانٹا جائے۔

خرق ا۔ خَرَقَ - خَرْقاً الثوبَ: کپڑے کو پھاڑنا۔ -البناءَ و فی البناء: عمارت میں روشندان رکھنا۔ فلاناً بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ خَرَّقَ ہُ: کو پھاڑنا۔ تَخَرَّقَ و اِنْخَرَقَ و اِخْرَوْرَقَ: پھٹنا۔ الخَرْق جمع خُرُوق: سوراخ، شگاف الخِرْقَة جمع خِرَق: کپڑے کا چیتھڑا، دھجی المَخْرَق جمع مَخارِق (ع ا): بدن کے منافذ کو بھی کہتے ہیں، جیسے منہ، ناک وغیرہ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲-خَرَقَ ـُ خَرْقاً الکذبَ: جھوٹ بات بنانا۔-الرجلَ: جھوٹ بولنا۔خَرَّقَ الرجلُ: بہت جھوٹ بولنا۔تَخَرَّقَ الکذبَ: جھوٹ گھڑنا۔اِخْتَرَقَ الکذبَ: جھوٹ گھڑنا۔المَخْرُقَة: جھوٹ گھڑت۔

۳-خَرَقَ ـُ خَرْقاً الارضَ: زمین میں سے گزرنا، عبور کرنا، زمین میں سفر کرنا۔-المفازةَ: ریگستان عبور کرنا۔اخترقَ الارضَ: زمین میں ایک طرف کو بغیر راستہ کے چلنا۔-القومَ: لوگوں کے درمیان میں چلنا۔الخرق بالمرّ (ر): زمین کی گہری جتائی ایک لمبے دو پھلوں والے آلہ سے جسے مرالخرق کہا جاتا ہے۔

الخرِق جمع خِرَق: پانی کے بہنے کی جگہ۔

المُخترَق: گزرگاہ کہا جاتا ہے مکانٌ خاوی المُخترق: وہ جگہ جہاں کوئی چلنے والا نہ ہو، آمد ورفت نہ ہو۔

۴-خرَقَ ـُ خرْقاً العادةَ: عادت ورسم کو توڑنا۔الخارق جمع خوارق: مقتضائے عادت کے خلاف کام، معجزہ۔

۵-خَرِقَ ـَ خَرَقَت الریحُ: ہوا کا تیز چلنا۔تخرّقَ و انخرقت الریحُ: ہوا کا تیز چلنا۔الخرق جمع خُروق: کشادہ وفراخ زمین جس میں ہوائیں تیز چلیں۔بیابان، ریگستان، ویران غیر آباد لق ودق، اجاڑ، بنجر زمین۔الخرِیق: ہلکی ہوا۔جمع خُرُق: وادی کا کشادہ قصبہ۔الخَرُوق: ٹھنڈی تیز ہوا۔المَخْرَق جمع مَخارق: بے آب وگیاہ بیابان۔الخَرْقاء: تیز ہوا، تند ہوا، کشادہ وفراخ زمین جس میں ہوائیں چلتی ہوں۔المُنْخَرِق: تیز رفتار (یہ ریح خریق بمعنی تیز وتند ہوا سے ماخوذ ہے) مُخْتَرَقُ الریاح: ہواؤں کے چلنے کی جگہ۔

۶-خَرَقَ ـُ خَرْقاً الرجلُ: بچوں کے کوڑے سے کھیلنے کا کھیل کھیلنا۔المَخاریق: دھجیوں سے بنا ہوا وہ کوڑا جس سے بچے کھیلتے ہیں۔

۷-خَرِقَ ـُ خُرُوقاً فی البیت: گھر میں لگاتار قیام رکھنا۔خَرِقَ ـَ خَرَقاً: خوف یا شرم کی وجہ سے دہشت زدہ ہونا صفت خَرِق۔-الغزالُ او الطائر: ہرنی یا پرندہ کا دہشت زدہ ہو کر اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔-فی البیت: گھر میں لگاتار قیام رکھنا۔اَخرقَهٗ: کو دہشت زدہ کرنا۔نومةُ الخُرَق: چاشت کے وقت کی نیند۔

۸-خَرِقَ ـَ و خَرُقَ ـُ خَراقةً: بے وقوف ہونا۔صفت اَخْرَق: بے ہنر ہونا، اپنا کام اچھے طریقہ سے نہ کرنا صفت اَخْرَق۔الخُرْق و الخَرَق و الخُرْقَة: حماقت، نامناسب استعمال، جہالت، رائے کی کمزوری۔الخَرْقاء: اخرق کا مؤنث۔

۹-تَخَرَّقَ فی الکرم: وسیع پیمانہ پر فیاضی کرنا۔الخِرِّق جمع اَخراق و خُرّاق و خُروق و الخَریق (مبالغہ کے طور پر): فیاض، سخی۔المِخْراق جمع مَخاریق: سخی۔

۱۰-الخُرْق و الخَرَق و الخُرْقة: سختی۔المِخراق جمع مَخاریق: خوبصورت جسم والا، تجربہ کار کہا جاتا ہے ھو مِخْراقُ حربٍ: اس نے کئی جنگیں لڑی ہیں، جن میں وہ پھرتی سے کام لیتا ہے۔

○ خرق ـُ خرْقاً ہ: کو پھاڑنا، چیرنا، میں سوراخ کرنا کو برمانا، چھیدنا، میں گھس جانا، سے گزرنا، (کسی ملک) میں سفر کرنا، کو عبور کرنا، سے گزرنا، کی خلاف ورزی کرنا، سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، میں خلل ڈالنا، کو بگاڑنا، خراب کرنا، پر مداخلت بے جا کرنا، عہد، اقرار وغیرہ توڑنا۔-: غیر معمولی ہونا، بے مثل ہونا، ان سنا ہونا، ان دیکھا ہونا نرالہ، انوکھا، یا عجیب و غریب ہونا۔خرقَ العادةَ: معمول سے زیادہ ہونا بڑھنا۔اَخرقَ: گھاٹ میں بیٹھنا، گھات میں ہونا۔-تخرّقَ و انخرقَ: پھٹنا، چرنا، ٹوٹنا، چھدنا۔اِخترقَ ہ: کو چیرنا، سے گزرنا، میں گھسنا میں سفر کرنا، کو عبور کرنا، (حد) سے تجاوز کرنا، سے زیادہ ہونا۔اِختَرقَ مسامِعَهٗ: کے کانوں میں چیخنا۔خَرْق: پھاڑنا، چیرنا، سوراخ کرنا، چیر پھاڑ، نفوذ، رسائی، سوراخ کرنا، چیر پھاڑ، نفوذ، رسائی، گھسنا، شکستگی، انتشار، راستہ کی رکاوٹ دور کرنا، اہم پیش رفت، عرضاً سفر، عبور کرنا، خلاف ورزی، جمع خُرُوق: سوراخ، شگاف، موگھا، روشن دان، روزن، راستہ۔

خرق الامن العام: امن عامہ میں خلل اندازی۔

خرقُ العادات: عام رواج کی مخالفت کا گناہ معاشرتی روایات کی خلاف ورزی۔اِتَّسعَ الخرقُ علی الراقع: شگاف پر نہیں کیا جاسکتا۔خُرْق و خُرْقَة: حماقت، اناڑی پن، پھوہڑ پن، بے سلیقگی۔خُرق فی الرأی: کند ذہنی بے خبری، بے وقوفی، نافہمی، نادانی، شوریدہ سری، دیوانگی، سودا، خبط، جنون، پاگل پن۔من الخرق فی الرأی أن: یہ بات بڑی غیر دانشمندانہ ہوگی کہ۔خِرْقَة جمع خِرَق: دھجی، چیتھڑا، ٹکڑا، پرزہ (کاغذ کا) ٹکڑا، پالش کا کپڑا، ربڑ کا ٹکڑا۔

اَخْرَق مؤنث خَرْقاء جمع خُرْق: بے ڈول، بھونڈا، بے سلیقہ، پھوہڑ، اناڑی، بھدا، بے ڈھنگا، بے ہنگم، ناکارہ، ناموزوں، بے خبر، مدہوش، مخبوط کند ذہن، کودن، بے وقوف، بے قاعدہ، بے ڈھب، خلاف ضابطہ، خلاف قاعدہ، خلاف معمول غیر قانونی، ناجائز، ناروا، خلاف قانون مَخْرَقَة: دھوکا، فریب، دغا، شعبدہ بازی، کرتب، ہاتھ کی صفائی، بازی گری، مکاری، نٹ بازی، فسوں گری، چھومنتر، جنتر منتر۔

مَخارِق: ایک قسم کی پیسٹری اِختراق: گھسنا، چھیدنا، سوراخ کرنا، ٹوٹنا، توڑنا، عرضاً سفر کرنا، عبور کرنا، عبور، گزر۔خارق اور خارق للعادة یا خارق العادة: معمول سے متجاوز، غیر معمولی، خلاف قاعدہ، خلاف معمول، خلاف دستور انوکھا، نرالا، عجیب وغریب، ان دیکھا، ان سنا، بے نظیر، جمع خوارق: معجزات۔خارق الطبیعة: خارق عادت، مافوق الفطرت۔خوارق المُصادفات: معجزانہ اتفاقی مطابقات۔مُخْتَرَق: راہ، راستہ، گزرگاہ۔

خرم: اخْرَمَ ـِ خَرْماً ہ: میں سوراخ کرنا، شگاف ڈالنا، ناک کی درمیانی ہڈی کو چھیدنا، کہا جاتا ہے۔ماخرمتُ منه شیئاً: میں نے اس میں سے کچھ کم نہیں کیا اور نہ کاٹا۔الخرزةَ: موتی توڑنا۔-الابرةَ: سوئی کا ناکا توڑنا۔خَرِمَ ـَ خَرَماً: کے ناک کی ہڈی کا چھدنا صفت اَخْرَم۔خرَّمَ الخرزَ: موتیوں میں سوراخ کرنا۔تخرَّمَ: ٹوٹنا۔انخرمَ انفُهٗ: کا ناک چھد جانا، ٹوٹنا۔الخَرْم جمع خُرُوم: پہاڑ کی نکلی ہوئی نوک۔الخَرَمَة: ناک میں چھیدنے کی جگہ۔

الأخرَم: روم کے ایک بادشاہ کا لقب، مونڈھے کے نچلے حصہ کا کنارہ۔الأخرمان: اوپر کے جبڑے کے ہر دو طرف دو سوراخ دار ہڈیاں۔الخَرْماء: چھدا ہوا کان۔-من العنز: عرض میں پھٹے ہوئے کان والی بکری۔المَخْرِم جمع مَخارِم: پہاڑ کی نوک کا آخری سرا۔المَخارِم: پہاڑ میں راستے اور ان کے منہ۔مَخارِمُ اللیل: رات کی ابتدائی گھڑیاں۔

الخَوْرَمَة (ع ا): انسان کی ناک کا بانسہ یا دونوں نتھنوں کا درمیانی حصہ۔

۲-خَرَمَ ـِ خَرْماً عن الطریق: راستہ سے ہٹنا۔

۳-خَرَمَ ـِ خَرْماً تْهُ الخوارِمُ: کسی کا مر جانا۔تخرَّمَ و اخترمَ ہ: کو ہلاک کرنا، کی بیخ کنی کرنا۔ـہُ الموتُ: کو موت کا آلینا۔انخرمَ القرنُ: صدی کا ختم ہو جانا، گزر جانا۔اُخْتُرِمَ عنا: مرنا۔

۴-خَرُمَ ـُ خَرامَةً: شوخ و بے باک ہونا صفت خارم و خَرِیم۔اِخترمَهُ المرضُ: کو بیماری کا لاغر کرنا، دبلا پتلا کرنا۔الخُرمان: جھوٹ۔

۵-خرمَشَ الکتابَ: کتاب کو خراب کرنا، بگاڑنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۶- خَرْنَفَ هُ بالسيف: کوتلوار سے مارنا۔

۷- الخِرنَق جمع خَرَانِق (ح): جوان خرگوش خرگوش کا بچہ۔ الخَوَرْنَق بادشاہ کے کھانے پینے کی مجلس (ن) ایک قسم کا پودہ۔

○ خَرَمَ - خَرْمًا و خَرَّمَ ہ: کو چھیدنا، برمانا، میں سوراخ کرنا، کو چیرنا، میں چھید ڈالنا۔ اِنْخَرَمَ: چھدنا، پھٹنا، پھٹکا جانا، پارہ پارہ ہونا، پاگل ہونا، دیوانہ ہونا، غیر منظم ہونا، غیر مستعد ہونا، ختم ہونا، کی مدت ختم ہونا، ناکام ہوجانا، دور ہوجانا۔ اِخْتَرَمَ ہ: کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، موت کا کسی کو لے جانا، مرجانا، —الصفوف: صفیں توڑنا، —ہ: میں سے گزرنا۔ خَرْم جمع خُرُوم: شگاف، دراڑ، خلا، خالی جگہ۔ خُرْمٌ: سوراخ، خُرْمُ الابرة: سوئی کا ناکہ۔ خَرَّامَة: برما، پھل (کاٹنے کا اوزار) چھوٹا برما، پیچ، سوراخ کرنے کا اوزار، چھیدنے والا۔ اَخْرَم: سوراخ دار ناک کے پردے والا۔ تَخْرِیم: چھیدنا، بورنگ کرنا، ڈرل کرنا، سوراخ، چھید، پیچ کرنا، لیس فیتہ، جھالر، کلابتون (کاری)۔ تَخْرِیمَة: لیس، فیتہ، جھالر، کلابتوں (کا کام)، دھات کے تاروں کا باریک کام، طلاکاری۔ اِنْخِرَام: خلل، گڑبڑ، ابتری، بدنظمی، پاگل پن، دیوانگی، پراگندگی، بے ترتیبی۔ اِنْخِرَامٌ فی التوازن: توازن کا خلل۔ مَخْرُوم: ناقص، نامکمل۔ مُخَرَّم: سوراغ کیا ہوا، طلاکاری کیا ہوا۔

○ خُرْمَاشَة جمع خُرْمَاشات: کھانچے دار سرا دن، سہاگہ، مہڑا، ہینگا۔

○ خُرْنُوب: ٹڈی، ایک قسم کا درخت یا اس کے بیج جو سفوف کی شکل میں چاکلیٹ کی جگہ استعمال کئے جاتے ہیں۔

○ خِرنِق جمع خَرَانِق: جوان خرگوش، خرگوش کا بچہ۔

○ خِرْوَع: ارنڈی کا پودا جس سے کسٹرول (castoroil) بنایا جاتا ہے۔

خزّ: ۱- خَزَّ ـُ خَزًّا الحائِطَ: دیوار پر کانٹے لگانا تاکہ اس پر کوئی چڑھ نہ سکے۔

۲- خَزَّ یَخُزُّ التمرُ: کھجور کا قدرے ترش ہونا صفت: خازٌّ۔

۳- خَزَّ ـُ خَزًّا و اِخْتَزَّہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔

۴- خَزَّ ـُ خَزًّا و اِخْتَزَّا لرجلَ ببصرہ: کو اپنی نگاہ میں رکھنا۔

۵- الخَزّ جمع خُزُوز: ریشم، ریشم اور اون یا صرف ریشم کا بنا ہوا کپڑا۔ — (عند العامة (عام لوگوں کے نزدیک) کائی۔ الخُزَز جمع خِزَّان و اَخِزَّة (ح) نر خرگوش۔ الخَزِیز: بہت ہی خشک عوسج (ایک کانٹا) الخَزَّاز: ریشم کا سوداگر۔ المَخَزَّة: خرگوشوں کی جگہ۔

○ خَزَّ ـُ خَزَّاہ: پر بہت اثر کرنا، کو مبہوت کرنا پر سکتہ طاری کرنا، —ہ ب: کو کسی چیز سے زخمی کرنا، میں کوئی چیز گھونپنا۔ اِخْتَزَّہ ب: کو سے بہت متاثر کرنا، کو سے مبہوت کرنا۔ خَزّ جمع خُزُوز: ریشم ریشمی کپڑا۔

خزب: ۱- خَزِبَ - خَزَبًا و تَخَزَّبَ الجلدُ: کھال کا بغیر درد کے سوج جانا صفت: خَزِب: —ت الشاةُ: بکری کے تھنوں کا سوجنا صفت: خَزِبَة و خَزْباء، الخَیْزَب و الخَیْزَبان: نرم گوشت، خَیْزَبَة و خَیْزَبانة: نرم گوشت کا ٹکڑا۔

۲- الخِزْباز و الخَازِباز (ح): باغ کی مکھیاں، باغ کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔

خزر: ۱- خَزَرَ ـُ خَزْرًا: کنکھیوں سے دیکھنا، چالاک ہونا صفت: خازِر — تْ عینُہٗ: تنگ آنکھوں والا ہونا۔ صفت: اَخْزَر مونث خَزْرَاء جمع خُزْر۔ خَزَّرَ الشیءَ: کو تنگ کرنا۔ تَخَازَرَ: تیز نظر سے دیکھنے کے لئے پپوٹے کو سکیڑنا۔ الخَزَر: آنکھ کی تنگی، چھوٹی آنکھوں والی ایک قوم۔ بحر الخَزَر: بحر قزوین۔ (the Caspian sea)۔ الخُزْرَة: سخت بھینگا پن جس میں آنکھ کا ڈھیلا کنپٹی والے گوشہ کی جانب الٹ جاتا ہے۔

۲- خَزِرَ - خَزَرًا الرجلُ: بھاگ جانا۔

۳- الخَزْرَة و الخُزْرَة: پیٹھ کا درد۔ الخَیْزُران (واحد خَیْزُرَانَة) جمع خَیازِر (ن): بانس، نرکل ہر نرم لکڑی، نیزے۔ الخَیْزُرَانة جمع خیزرانات جہاز یا کشتی کا سُکّان، دنبالہ۔ الخَیْزُور (ن): سرکل ہر نرم لکڑی، نیزے۔ الخَیْزُرَانة: جمع خیزرانات جہاز یا کشتی کا سکان، دنبالہ۔ الخَیْزُور (ن): نرکل۔ الخَوْزَرَی و الخَیْزَرَی: ناز و انداز کی چال۔

۴- الخَزْرَج: جنوبی ہوا۔

۵- خَزْرَفَ فی مشیته: ہاتھوں کو اوپر نیچے ہلاتے ہوئے چلنا۔

○ خَزَرَ ـُ خَزْرًاہ: کو ترچھی نظر سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، شک و شبہ کی نظر سے دیکھنا۔ خَیْزُران جمع خَیَازِر: بید، نرسل، بانس۔ خَیْزُرانة: بید، چھڑی۔

خزع: ۱- خَزَعَ - خَزْعًا الشیءَ: کو کو کاٹنا۔ —عن القوم: لوگوں سے پیچھے رہ جانا — منه شیئًا: سے کوئی چیز لینا۔ خَزَّعَ الشیءَ: کو کاٹنا۔ خَزَّعَ الشیءَ ... کے درمیان تقسیم کردینا بانٹ دینا۔ —ہٗ ظَلَعٌ فی رجلِه: کو پاؤں میں لنگراہٹ کا چلنے سے روک دینا۔ تَخَزَّعَ الشَّیءَ: کو کاٹنا۔ —عن القوم: لوگوں سے پیچھے رہ جانا۔ تَخَزَّعوا الشیءَ: چیز کو ٹکڑوں کی شکل میں آپس میں بانٹ لینا۔ اِنْخَزَعَ الحبلُ: رسی کا بیچ سے کٹ جانا۔ اِخْتَزَعَہٗ: کو لینا۔ —ہ عن القوم: کو قوم سے جدا کر لینا۔ الخَزَعَة: ایک پاؤں کی لنگراہٹ۔ الحِزعة: گوشت کا ٹکڑا۔ الخَزُوع: لوگوں کا مال اڑانے والا۔ الخُزَاع: موت۔ الخُزَاعَة: کسی چیز کا ٹکڑا۔ الخَوْزَعَة: ریگ کے بڑے تودے سے جدا ہونے والا ریگ کا تودہ۔

۲- اِنْخَزَعَ الرجلُ: آدمی کا بڑھاپے اور کمزوری کے باعث جھکنا۔ الخَوْزَع: بڑھیا۔

۳- الخَزَعْبَل و الخُزَعْبِل و الخُزَعْبِیل: خوش طبعی کی جھوٹی باتیں۔ الخُزَعْبَلَة جمع خُزَعْبَلات: خوش طبعی، مذاق۔

۴- خَزْعَلَ فی مشیه: چلنے میں لنگڑانا۔ — الماشی: چلنے والا کا لنگڑے کی طرح پاؤں کو جھاڑنا۔ الخَزْعَل (ح): بجو۔ الخُزْعَالة: مذاق، کھیل کود۔

○ خَزَعَ - خَزْعًا ہ: کو کاٹنا، الگ کرنا، جدا کرنا قطع کر دینا۔

خُزَعْبَل: بیکار باتیں، بیہودہ گفتگو۔ خُزَعْبَلَة جمع خُزَعْبلات: بیکار باتیں، بیہودہ، گفتگو۔ مذاق، ہنسی، چٹکلا، لطیفہ، ہنسی ہنسی میں دیا ہوا جھانسا، گپ، من گھڑت قصہ، لغویات، بے نیاد بات۔

خزف: خَزَفَ - خَزْفًا فی مشیه: چلنے میں ہاتھ ہلانا۔ — الثوبَ: کپڑا پھاڑنا — الشیءَ: کو چیرنا۔ الخَزَف (واحد خَزَفَة): مٹی کے پکے ہوئے برتن۔ الخَزَّاف و الخَزَفِیّ: مٹی کے برتن بیچنے والا مٹی کے برتن بنانے والا۔

○ خَزَف: مٹی کے برتن، چینی کے برتن، فن کوزہ گری، خزفیات۔ خَزَفِی: چینی مٹی کا بنا ہوا۔ خزّاف: چینی کے برتنوں کا سوداگر، کمہار۔ خِزَافة: کمہار کا پیشہ، ظروف سازی۔

خزق: ۱- خَزَقَ - خَزْقًا ہٗ بالسهم: کو تیر مارنا —ہ بالرمح: کو نیزہ آہستہ مارنا — الشیءَ فی الارض: کو زمین میں گاڑنا۔ تَخَزَّقَ و اِنْخَزَقَ: پھٹ جانا، چھد جانا۔ اِخْتَرَقَ السیفُ: تلوار کا میان سے نکلنا۔ الخازِق (فا): نیزہ کا پھل۔ المِخْزَقَة: برچھی۔ الخَازُوق جمع خَوَازِیق: ایک نوکدار لمبا ڈنڈا جس کو مجرم کے مقعد میں داخل کرنے پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے — مولدین

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نے اس سے فعل خَوْزَقَ بنایا ہے۔

۲۔ خَرَقَ ـِ خَرْقاً الطائر :پرندہ کا بیٹ کرنا۔

۳۔ خَرَقَ الثوبَ:کپڑے کو پھاڑنا۔

○ خَزَقَ ـِ خَزْقاً ہ :کو چھیدنا، میں سوراخ کرنا کو چبھونا، میں گھسنا، کو گھونپنا، گھسیڑنا، آر پار کرنا۔ — ہ فی الارض: کو زمین میں ٹھونکنا، گاڑنا۔ — ہ و خَزَّقَ ہ: کو چیرنا، پھاڑنا، چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ادھیڑنا۔ تَخَزَّقَ و اِنْخَزَقَ: چبھنا، چھدنا، گھپنا، گھسڑنا آر پار ہونا، چرنا، پھٹنا، چاق ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ادھڑنا۔ خَزْق درز، چاک شگاف، سوراخ، چیر (کپڑے میں) خَازُوق جمع خَوَازِیق: کھمبا، نوکدار کھمبا یا بلی، لاٹھی، لٹھ۔ گندہ فریب، چال یا دھوکا۔ ہذا فازوق: یہ مشکل حسن اتفاق ہے۔

○ خَوْزَقَ ہ: کے جسم میں میخ ٹھونک کر ہلاک کرنا، کو زچ کرنا، کو مشکل میں ڈالنا۔

خزل: ۱۔ خَزِلَ ـَ خَزَلاً: کی پیٹھ ٹوٹنا صفت: اَخْزَل و مَخْزُول۔ الخُزَالة پیٹھ کی شکستگی۔

۲۔ خَزَلَ ـِ خَزْلاً الشیءَ: کو کاٹنا تَخَزَّلَ: کٹنا۔ اِنْخَزَلَ فی کلامه بات کرتے ہوئے رک جانا۔ — من المکان: کسی جگہ سے علیحدہ ہونا۔ اِخْتَزَلَ الشیءَ: کو حذف کرنا، کاٹ دینا۔ — ہ عَن قومه: کو قوم سے علیحدہ کرنا۔ — برأیه اپنی علیحدہ رائے رکھنا۔ الودیعةَ امانت میں خیانت کرنا۔ الاِخْتِزَال (ع ح): تلخیص، اختصار، ایجاز، مختصر نویسی۔ اختزال (Steno graphy)، (short hand) کسر یا اختصارہ (ع ج): مساوی کسر میں تبدیل کرنا۔ جیسے 20/60، 15/25 کو علی الترتیب 1/3 اور 3/5 میں تحویل کرنا 3/4، 11/13 کی کسریں ناقابل اختزال ہیں۔

۳۔ خَزَلَ ـِ خَزْلاً ہ عن حاجته کو اس کی حاجت سے روکنا۔ انخزل عن الجواب جواب سے لاپرواہی کرنا۔ الخُزَلَة مراد سے روکنے والا۔

۴۔ تَخَزَّلَ بوجھل چلنا، — السحابُ: ایسا لگنا جیسے بادل واپس جاتے ہوئے سستی کر رہا ہو۔ اِنْخَزَلَ گرانباری سے چلنا۔ الخَوزَلی و الخَیْزَلی سست چال۔

۵۔ اِخْتَزَلَ ہ پر عیب لگانا۔

○ خَزَلَ ہ: کو کاٹ ڈالنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ ہ عن: کو سے روکنا، اِخْتَزَلَ ہ کو کاٹ ڈالنا مختصر کرنا، کو اچانک ختم کر دینا، کی تلخیص کرنا، کا اختصار کرنا: — ب کسی رائے میں تنہا ہونا۔ مُخْتَزِل مختصر نویس شینو گرافر۔

خزم: ۱۔ خَزَمَ ـِ خَزْمًا اللالی: موتی پرونا۔ و خَزَّمَ البعیرَ: اونٹ کی ناک میں چھلا ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: خَزَمَ ان (انف) فلان و جعل فی انفه الخزامة: اس نے اس کی ناک میں ناتھ ڈالدی یعنی اسے عاجز بنادیا تابع کرلیا۔ تَخَزَّمَ الشوكُ فی رجله: کے پاؤں میں کانٹے چبھ جانا۔ الخَزَم (ن) ایک درخت جس کی چھال سے رسیاں بنتے ہیں۔ الخِزَام ناک کا چھلا۔ الخِزَامة ناک کا چھلا۔ خزامةُ النعل: جوتے کا تسمہ۔ المَخْزُوم من الشُرُك: کٹا ہوا تسمہ۔

۲۔ خَازَمَ مُخَازَمَةً ہُ الطریقَ: دو مختلف راستوں پر چل کر ایک جگہ آپس میں آملنا۔ تَخَازَمَ الجیشان: دو لشکروں کا ایک دوسرے کے مقابل آنا۔ المَخْزَم جمع مَخَازِم: پہاڑی راستہ۔

۳۔ الاَخْزَم (ح): نرسانپ۔ الخُزَامَی (ن): ایک پودا جس کے پھول متعدد رنگوں کے ہوتے ہیں۔ ہالینڈ اس کی کاشت میں مشہور ہے۔ — الخَزَام (ن) ایک پودا جو عطروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

○ خَزَمَ ـِ خَزْمًا ہ (موتی) پرونا۔ خَزَمَ انفه اونٹ کی ناک میں چھلا ڈالنا، کسی کو اپنی خواہش کا تابع فرمان بنانا۔ خزامَی ایک قسم کی خوشبودار جھاڑی، لیونڈر کے پھول اور شاخیں جو خوشبو کے لئے کپڑوں میں رکھے جاتے ہیں۔

خزن: ۱۔ خَزَنَ ـُ خَزْنًا و اِخْتَزَنَ المالَ: مال ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، — السِرَّ بھید چھپانا۔ — اللسانَ زبان کو بولنے سے روکنا۔ اَخْزَنَ احتیاج کے بعد خوشحال اور مالدار ہونا۔ اِسْتَخْزَنَ المالَ: مال جمع کرنا، ذخیرہ کرنا۔ — ہ المالَ کو مال جمع کرنے کے لئے کہنا۔ الخازِن (فا) جمع خَزَنَة و خُزَّان: ذخیرہ کرنے والا، زبان، خازِنُ الامیر خزانچی، حاکم کے مال کی حفاظت کرنے اور اسے خرچ کرنے کا ذمہ دار۔ الخَزْنَة ذخیرہ کیا ہوا مال۔ خزانہ۔ الخَزَّان: زبان، پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ الخَزِینَة جمع خَزَائِن: خزانہ، جمع کیا ہوا مال۔ — و الخِزَانة جمع خَزَائِن مال ذخیرہ کرنے کی جگہ، خزانہ۔ الخَزَانَة خزانچی کا پیشہ۔ المَخْزَن جمع مَخَازِن ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ مَخْزَنُ البضاعة: سٹور، گودام۔

۲۔ خَزَنَ ـُ خَزْنًا و خُزُونًا و خَزِنَ ـَ خَزَنًا و خَزُنَ ـُ خَزَانَةً اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت: خَزِین۔

۳۔ اِخْتَزَنَ الطریقَ قریب ترین راستہ اختیار کرنا مَخَازِنُ الطریق: منزل مقصود پر پہنچنے کے قریب ترین راستے۔

○ خَزَنَ ـُ خَزْنًا: سٹور کرنا، سٹاک کرنا، اٹھا رکھنا، بچا رکھنا، سینت کر رکھنا، ذخیرہ کرنا، انبار لگانا، جمع کرنا۔ — ہ: بھید کو چھپانا، بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خَزَّنَ و اِخْتَزَنَ ہ: کو سٹور کرنا، کا سٹاک کرنا کو اٹھا رکھنا، بچا رکھنا، سینت کر رکھنا، کو گودام میں رکھنا کو جمع کرنا، کا انبار لگانا، کے گرد یا پر بند باندھنا یا پشتہ بنانا، کو بند باندھ کر روکنا، کو حفاظت میں رکھنا، سنبھال کر رکھنا۔ خَزْن: سٹور کرنا، ڈھیر، انبار، ذخیرہ اندوزی کرنا، سینت سینت کر رکھنا، جمع کرنا، ڈھیر لگانا، ذخیرہ کرنا، گودام میں رکھنا خَزْنَة: خزانہ، تجوری، سیف، تہ خانہ، کپڑوں کی الماری، جامہ دان، وارڈ روب، لاکر (locker) برتنوں کی الماری، نعمت خانہ۔ خِزَانَة جمع خزانات و خَزَائِن: خزانہ، تہ خانہ، تجوری، خزانہ عامرہ، مالی وسائل جمع کرنے اور ادا کرنے کے لئے دفتر، لاکر، کپڑوں کی الماری، برتنوں کی الماری، نعمت خانہ، لائبریری۔ خزانة الدولة و خزانة عامة: عوامی خزانہ، خزانہ عامرہ، محکمہ مالیات خزانة الثلج: آئس بکس، ریفریجریٹر۔ خزانة الکتب: بک کیس، لائبریری۔ خزانة خصوصیة: نجی لائبریری: خزانة الملابس: وارڈ روب، کپڑوں کی الماری، لاکر، خَزِینَة جمع خَزَائِن: خزانہ، خزانہ عامرہ، مالیاتی محکمہ، مالیاتی وسائل جمع کرانے اور ادا کرنے کا دفتر خزانچی کا دفتر، تہ خانہ، سیف کیش بکس، روپیہ رکھنے کی غلک۔ الخزینة الخاصة (سابقہ) نجی شاہی دولت۔ خزینة الدولة: خزانہ عامرہ۔ خزینة راصدة و خزینة نقود راصدة: کیش رجسٹر، روکڑ بہی۔ خَزَّان جمع خَزَّانات و خزازین: ڈیم، خزانہ آب، تالاب، نشیبی زمین گندی پانی کی حوضی، قدرتی تالاب، تیل کی ٹنکی جمع خَزَّانون: گودام والا، بڑی دوکان والا مَخْزَن جمع مَخَازِن: سٹور روم، گودام، مال خانہ، سٹاک رکھنے کا کمرہ، ڈیپو، سٹور، دوکان، ڈیپارٹمنٹل سٹور۔ المخزن: مراکش کی حکومت کا محکمہ مالیات۔ مخزن اَدْوِیَة: دواؤں کی دوکان۔ مخزن الاصدار: مال اتارنے چڑھانے کا کمرہ۔ مخزن العَفْش (موٹر کار وغیرہ کا) ڈگی۔ مَخْزَنِی: حکومت یا انتظامیہ کے ماتحت، حکومت کا، حکومتی۔ املاك مخزنیة: حکومت کی زمین مَخَازِنی جمع مخازنیة: ملکی مسلح سپاہی۔ مَخَازِنُ الطریق: قریب ترین راستہ، سب سے چھوٹا راستہ۔ مَخْزَنجی: مال

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

گودام والا، دوکان والا خـزَنـدَار :خزانچی، معتمد مال، خازن تـخزِین :سٹور کرنا، ذخیرہ کرنا، گودام میں رکھنا، مستقبل کے لئے جمع رکھنا، حفاظت کے لئے رکھنا، جمع کرنا، ڈھیر، انبار، بند باندھنا، پشتہ بنانا، بند باندھ کر روکنا خـازِنجـمـع خـزَنَة و خُـزَّان :خزانچی، معتمد مال، خازن، مَـخـزُون :سٹور کیا ہوا، گودام میں رکھا ہوا، جمع کیا ہوا، جمع کرایا ہوا تحویل میں دیا ہوا۔ (جمع مَـخـزُونَـات) :سٹاک، سامان، مال، رسد، ذخیرہ، ضروری سامان (برائے تجارت)

خـزا: خـزَاَـُ خـزْوَاہُ: پر سیاست کرنا، حکومت کرنا، پر غالب آنا، کو خواہش نفسانی سے روکنا، سے دشمنی کرنا۔ الدابَّةَ :جانور کو سدھانا۔

خزی: ۱۔ خِزیَ ـَ خِزْیًا و خَزیً: ذلیل ہونا، خوار ہونا مصیبت میں پڑنا، بدنام ہونا۔ خَـزَی ـِ خَـزْیًا ہُ :کو شرمندگی میں ڈالنا، سے زیادہ رسوا ہونا، کو رسوا کرنا۔ خـازَی مُـخـازاۃً ہ: کو شرمندگی میں ڈالنا۔ اَخزَی اِخزَاءً ہُ: کو شرمندگی میں ڈالنا، کو ذلیل کرنا، کی اہانت کرنا جب کسی سے کوئی اچھا کام سرزد ہوتا ہے تو کہتے ہیں: اخـزَاہُ الـلـہ مـا اشعرہ جس طرح کہتے ہیں: قـاتله الله ما اَشْجَعَهُ :اس قسم کی دعاؤں میں معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ مدح مقصود ہوتی ہے۔ جیسے عام لوگ کہتے ہیں: یـا مـضـروب ما اَحْسَنَهُ الخِزْی: خواری، ذلت، عذاب۔ الـخِـزْیَة والـخَـزْیَة: مصیبت، آفت، ایسی عادت جس سے انسان کو ذلیل ہونا پڑے۔ المَخزَاۃ :باعث شرمندگی وذلت۔

۲۔ خـزِیَ ـَ خَـزَایَةً و خَـزًی ہُ و مـنـہ: سے شرم کرنا صفت خَزِمونث خَزِیَة و خَزْیَانمونث خَزْیاء جمع خَزَایا، اِسْتَخزَی :شرم کرنا، حیا کرنا۔

۳۔ الخِزْی :دوری۔

○ خَـزِیَ ـَ خِـزیًـا و خَـزًی: گھٹیا، پست، رذیل، شرمناک، کمینہ، ذلیل، فرومایہ، قابل مذمت یا لائق مذمت ہونا یا ہو جانا۔ ـ خَـزَایَةً مـن: پر شرمندہ اور نادم ہونا۔ خـزَی ـِ خَـزْیًا ہ :کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بدنام کرنا، پر اعتبار یا بھروسہ نہ کرنا، کو بے اعتبار کرنا، کو جھوٹا جاننا، کو شرمندہ کرنا خفیف کرنا، کو مصیبت میں پھنسانا۔ اَخـزَی ہ :کو ذلیل کرنا، نیچا دکھانا، رسوا کرنا، کی بے عزتی کرنا، کو بدنام کرنا، شرمندہ کرنا، نادم کرنا۔ اِسْـتَـخزَی :شرمندہ ہونا۔ خِـزْی و خَزًی: شرمندگی، بے عزتی، ذلت، رسوائی، فضیحت، ذلیل حرکت۔ یا لَـلْـخـزَی بڑی شرمناک بات ہے۔ خَـزْیانمـؤنث خَـزْیاجـمـع خـزایا :شرمندہ، شرمیلا، شرمسار، خجل، منفعل، شرمناک، رسوائی کا موجب، رسوا کن، دل آزار، صدمہ پہنچانے والا، بدنام، کمینہ، مَـخزَاۃجمع مَخَازٍ :شرمناک بات، رسوائی، موجب رسوائی بات، باعث شرم، حرکت (جمع) شرمناک باتیں، رسوائی کی موجب حرکتیں یا کام، بدنامیاں۔ مَـخـزِی :شرمندہ، شرمیلا، شرمسار، خجل، منفعل، پریشان، مشکل میں ڈالا ہوا، گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا۔ الـمخری :شیطان۔ مُخزٍ :شرمناک، موجب رسوائی، رسوا کن، دل آزار، صدمہ پہنچانے والا، رسوا، رسوائے عالم، بدنام، مُخزِیَةجمع مُخزِیات: شرمناک، بدنامی۔

خـس: ۱۔ خَـسَّ ـِ خَـسَـاسَةً وخُسُوسَةً و خِسَّةً: رذیل ہونا۔ ـ ـَ خِسَّةً و خَسَـاسَةً فـلانٌ: ذاتی طور پر کمینہ وسفلہ ہونا۔ ـُ خَسًّا و خَسَّسَ نصیبَهُ: کا حصہ کم کرنا۔ اَخَـسَّ :گھٹیا کام کرنا، رذیل کام کرنا۔ ـہُ: کو رذیل پانا، سے حقارت کرنا۔ اِسْتَخَسَّ ہُ :کو رذیل پانا، سے حقارت کرنا، کو حقیر جاننا۔ الـخَـسِـیس جـمـع اَخِسَّة و خِـسـاس: کمینہ، ذلیل، رذیل، فرومایہ، پاجی، صغیر، سفلہ، تھوڑا، حقیر ناقص، نکما، کم۔ الخسِیْسَة جمع خَسَـائِس :الخسِیس کا مؤنث، خَسَـائِـسُ الامـور حقیر باتیں الـخـسـاس والمَخْسُوس من الاشیاء :معمولی، حقیر چیز۔

۲۔ خَـسَّ ـِ خَسَـاسَةً و خُسُوسَةً و خِسَّةً: وزن یا اندازہ میں کم ہونا صفت :خسیس جمع خساس و اَخِسَّة۔ اخَـسَّ حظـہ: کا حصہ کم کرنا۔ الـخسـاسة تھوڑا مال۔

۳۔ تـخاسوا الشیء :کو آپس میں لینا اور اس میں سبقت کرنا۔ الـخِـسـاس :ہر وہ شے جس کا لین دین لوگ آپس میں کریں۔

۴۔ الـخَسّ (ن) :کاہو، برگ کاہو۔ خَـسُّ الـحمار و خسُّ البقر (ن): دو جنگلی گھاس۔ الخُـنَّس (فلك): وہ ستارے جو غائب نہیں ہوتے جیسے بنات نعش۔

○ خَـسَّ ـَ خِسَّةً و خَسَـاسَةً: کمینہ ہونا، سفلہ ہونا، حقیر ہونا، ذلیل ہونا، کم ہونا، نرخ گرنا، قیمت گھٹ جانا مندا ہو جانا شرح مبادلہ کم ہو جانا۔ خَسَّ ـُ ہ :کو کم کرنا، گھٹانا، خَـسَّـسَ ہ :کو کم کرنا، گھٹانا۔ خَسَّة: برگ کاہو کا سرا۔ خِسَّة و خَسَـاسَة :کمینگی، حرامی پن، پاجی پن، کمینہ پن، خباثت، ذلت۔ خَـسِـیس جـمـع اَخِـسَّـاء :حقیر، ذلیل، کمینہ، سفلہ، پست، خبیث، پاجی، فرومایہ، خوار، قابل نفرت، خستہ حال، مفلوک الحال، زار نزار۔ خـسِیسَة جمع خَـسَائِس:

بدنامی، گھٹیا چال، بری حرکت۔

خسـا: ۱۔ خَسَـأ ـَ خَسْـأ الکلبَ: کتے کو دھتکارنا۔ ـ وخَسِـئَ ـَ خَسَـأً و اِنْخَسَأَ الکلبُ: کتے کا دور ہونا، دھتکارا جانا۔ خَـاسَـأَ مُـخَاسَاۃً و تَـخَاسَأَ تَـخَاسُؤًا القوم: ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔ الـخاسی من الـخنازیر و الکلاب: دھتکارا اور ہلکایا ہوا کتا یا سؤر جسے لوگوں کے پاس نہ پھٹکنے دیا جائے۔

۲۔ خَسَـأ ـَ خَسْـأ و خُسُوءً البصرُ: نظر کا تھکنا، کمزور ہونا۔

۳۔ الخَسِیء :گھٹیا اور ردی اون وغیرہ۔

○ خَسَـأَ ـَ خَسْـأہ: کو بھگا دینا، نکال دینا۔ خَسِـئَ ـَ خَسَـأً: بھگا دیا جانا، نکال دیا جانا جلدی چلا جانا، نکل جانا، خَسِـئْـتَ! :جلدی سے نکل جاؤ، پرے ہٹو، دفع ہو جاؤ۔ اِخْسَأْ اِلَیكَ! :جلدی سے نکل جاؤ، پرے ہو، دفع ہو جاؤ۔ اَخْسَـأ :گھٹیا تر، کمینہ تر، کمزور تر، ذلیل تر خـاسِـیء: مسترد کیا ہوا، ٹھکرایا ہوا، اچھوت، جس کا حقہ پانی بند ہو، گھٹیا، کمینہ، بازاری، سوقیانہ، فرومایہ، ذلیل، قابل مذمت، لائق مذمت، شرمناک، رسوائی کا موجب، رسوا کن، رسوا، رسوائے عالم، بے کار، ناکام یا لا حاصل (کوشش) کمزور لاغر، نڈھال، ناتواں، بے ہمت۔

○ خُسْـکَة :ناسازی طبع، علالت۔ مُخَسْتَك :علیل، جس کی طبیعت ناساز ہو۔ بیمار بیماروں کی طرح۔

خسـر: ۱۔ خَسِـرَ ـَ خَسْـرًا و خُسْـرًا و خَسَـرًا و خُسُرًا و خَسَـارًا و خَسَـارَۃً و خُسْرانًا: گھاٹا پانا، نقصان اٹھانا، گمراہ ہونا، ہلاک ہونا صفت: خـاسِر و خَسِـیر و خُسْرَی۔ خَسَرَ ـِ خَسْرًا و خُسْرانًا المالَ: مال ضائع کرنا۔ خَسَّـرَہٗ :کو نقصان دینا، گمراہ کرنا، ہلاک کرنا: اَخْسَـرَہٗ: کو نقصان دینا، گمراہ کرنا، ہلاک کرنا۔ الـرجلُ نفسَهُ: نقصان میں پڑنا، نقصان اٹھانا۔ الـخَـاسِـر: (فا)۔ کَرَّۃ خاسِرَۃ: ناکام حملہ، نقصان دہ حملہ۔ الـخَنْسَـر والـخَنْسَرِیّ جمع خناسِرۃ: وہ شخص جو نقصان میں ہو۔

۲۔ خَسَـرَ ـِ خَسْـرًا و خُسْـرانًا المیزانَ: کم تولنا، کم کرنا، گھٹانا۔

○ خَسِرَ ـَ خُسْرًا و خَسَارًا و خَسَـارَۃً و خُسْرانًا: گھاٹا پانا، نقصان اٹھانا، ـہ کو گنوانا، کھونا، گم کرنا سے محروم ہو جانا۔ ـ: راستہ بھٹک جانا، راستہ گم کر دینا، دور ہو جانا۔ ہلاک ہونا۔ خَسَّـرَہٗ :کو نقصان پہنچانا، کو گھاٹے سے دوچار کرنا، کو تباہ و برباد کرنا، بگاڑنا، خراب کرنا۔ اَخْسَـرَہٗ :کو گھاٹا دینا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کھانے سے دو چار کرنا۔ ہ کو چھوٹا کرنا، قطع کرنا، کم کرنا۔ ـــخســ علی فی ہ کو کچھ دینے میں دریغ کرنا، کے کچھ رکھنے پر جلنا، حسد کرنا، خار کھانا، رشک کرنا۔ خســ نقصان، گھاٹا، خسارہ ضرر۔ خسر نقصان، گھاٹا، خسارہ، ضرر، ضبطی، زوال، انحطاط، خرابی، بگاڑ، ابتری، سیاہ کاری، عیاشی اوباشی، لفنگا پن۔ خسا ۔ جمع خسار نقصان، ضرر (جمع) ـفی میں نقصانات، (جنگ یا حادثے کے) مقتولین، مجروحین۔ ساخســ ہ بڑے افسوس کی بات ہے! بہت برا ہوا۔ خسـ ان ہارنے والا، نقصان اٹھانے والا، گھاٹے میں رہنے والا نقصان یا ضرر سے متاثر ہونے والا۔ خاسر گم گشتہ، ضائع، لا حاصل، نا امید، حقیقی نقصانات پر مشتمل، ہارنے والا نقصان اٹھانے والا، گھاٹے میں رہنے والا اخراب کیا ہوا، بگڑا ہوا، فاسق، فاجر، بدکار، عیاش، اوباش، لفنگا، بدنام شخص، مشتبہ چال چلن والا، بدذات، بے اصول شخص۔ مخسر نقصان دہ، ضرر رساں، مضرت رساں۔

حسع: حسِع حسْعًا عنه کذا سے کسی چیز کا دور کیا جانا۔ الخسع کمزور حاسع و خسعة القوم۔ قوم کا ادنی درجہ کا آدمی۔

خسف: خسف خسفا القمر چاند کو گہن لگنا۔ ــالمکان جگہ کا زمین میں دھنس جانا۔ ــفلانٌ فی الارض زمین میں دھنس جانا۔ ــت العین آنکھ کا جاتا رہنا یا گڑھے میں بیٹھ جانا۔ خسفًا العینَ آنکھ پھوڑنا۔ ــ اللّٰه الارض اللہ تعالی کا زمین اور اس کے اوپر کی چیزوں کو دھنسا دینا۔ ــاللّٰه الارض بفلان اللہ تعالی کا کسی کو زمین میں دھنسا دینا۔ خُسِف الرجل بالارض آدمی کا زمین میں دھنس جانا۔ انخسف و انخسفت الارض زمین کا اپنی اوپر کی چیزوں سمیت دھنس جانا۔ ــت عینُه کی آنکھ کا اندھی ہونا۔ الخاسف جمع خُسُف ـا دھنسی ہوئی آنکھ الخسیف من العیون: دھنسی ہوئی آنکھ۔ الخسفة من الارض زمین کا نشیبی علاقہ الأخاسِف والا خاسیف نرم زمینیں۔

۲۔ خسَفَ ـِ خُسوفًا السقفُ: چھت کا گرنا۔ انخسف و انخسف ب البئرُ کنویں کا منہدم ہونا، بیٹھ جانا۔

۳۔ خسَفَ ـِ خسْفًا الشیءَ فتخسّف ھو کو پھاڑنا نتیجۃً چیز کا پھٹ جانا، کو قطع کرنا، کاٹنا۔ ــالبئرَ پتھریلی سنگلاخ زمین میں کنواں کھودنا جس کی وجہ سے پانی ہمیشہ کے لئے جاری ہو جائے۔ الخسف کنویں کی سوت۔ الخسیف جمع أخسِفة و خُسُف و الخُسوف جمع خُسُف من الآبار: چٹان میں کھودا ہوا کنواں جس کا پانی بند نہ ہو۔ ــمن النوق بہت دودھ دینے والی اونٹنی جس کا دودھ جاڑے میں جلد ختم ہو جائے۔ ــمن السحاب پانی سے بھرا ہوا اٹھنے والا بادل۔

۴۔ خسَفَ ـ خُسوفًا الشیءُ: کم ہونا، الرجلُ دبلا ہونا۔ الخسف کی، کہا جاتا ہے: باتوا علی الخسف انہوں نے بھوکے رہ کر رات کاٹی۔ شربنا علی الخسف ہم نے بغیر کچھ کھائے پیا۔ الخاسِف جمع خُسُف دبلا، بیماری کی وجہ سے کمزور و لاغر، بھوکا۔

۵۔ خسَفَ ـ خسْفًا فلانًا کو ذلیل کرنا اور ناگواری کی بات پر مجبور کرنا۔ الخَسْف ذلت، عیب۔ ـو الخُسُف تذلیل اور ناگوار کام پر مجبور کرنا کہا جاتا ہے: سامهُ الخسفَ و سامهُ خسفًا و خُسفًا اس نے اس کو ذلیل کیا اور مشقت میں ڈالا۔

۶۔ الخَسْف و الخُسْف (واحد خُسْفة) اخروٹ۔

○ خسَفَ ـ خسْفًا و خُسوفًا بیٹھ جانا، ڈوبنا، دھنس جانا، ٹوٹ جانا، غائب ہو جانا، کھو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، کافور ہو جانا (چاند کو) گرہن لگنا۔ ــ خسّفَ بٹھانا، دھنسانا توڑنا۔ خسف اللّٰهُ به الارضَ اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اللہ تعالی نے زمین سے اسے ہڑپ کرا لیا۔ انخسف بیٹھنا، دھنسنا ڈوبنا۔ خَسْف گھٹیا پن، رذالت، پستی، کم اصلی، شرم کی بات، بے عزتی، بے وقری، بے قدری، تحقیر ذلت، رسوائی، بے غیرتی، شرم، شرمندگی۔ ساه خسفًا ہ کو ذلیل کرنا، خفیف کرنا، نیچا دکھانا، بے عزت کرنا، بگاڑنا۔ خسوف حجاب پوشیدگی، اخفاء، چاند گرہن۔

خسق: خسَقَ ـِ خسْقًا و خُسوقًا السهمُ: تیر کا اچھی طرح نافذ نہ ہونا۔ الخَسّاق: بڑا جھوٹا۔ الخَسَقات کہا جاتا ہے: ھو ذو خَسَقات فی البیع: وہ بیع کو کبھی نافذ کرتا ہے کبھی فسخ کرتا ہے۔

خسل: خسَلَ ـُ خسْلًا ہ: کو رذیل بنانا، جلاوطن کرنا۔ الخِسالة و الخُسالة: ردی چیز۔ الخسیل جمع خِسال و خسائِل حقیر، رذیل، ادنی۔ الخُسَّل و الخُسّال رذیل اور کمزور لوگ۔ المُخَسَّل و المَخْسول رذیل، حقارت کیا ہوا۔

خسی: خاسَی مُخاساةً و اخسی اِخساءً و خسّی تخسیةً ہ: ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے اکیلے یا دو دو کر کے اخروٹ سے کھیلنا۔ الخسا جمع الأخاسِي: فرد، طاق۔

خش: ۱۔ خشَّ ـُ خشًّا زیدًا: زید کو نیزہ مارنا۔ فیه: میں داخل ہونا۔ ــالبعیرَ: اونٹ کی ناک میں لکڑی ڈالنا۔ انخشَّ فیه: میں داخل ہونا۔ ــبین القوم: لوگوں کے درمیان داخل ہونا اور غائب ہونا گھل مل جانا۔ الخشّ (مص) درز یا شگاف۔ الخِشاش واحد خِشاشة جمع أخِشّة اونٹ کی ناک میں ڈالنے کی لکڑی۔

۲۔ خشَّ ـُ خشًّا الرجلُ جری ہونا۔ المِخَشّ بہادر، جری، دل چلا، دلیر گھوڑا۔ الخَشاش شجاع، بہادر۔

۳۔ خشَّ ـُ خشًّا السحابُ بادل کا تھوڑی بارش برسانا۔ الخَشّ تھوڑی بارش۔

۴۔ الخَشّ کھردری چیز، پہاڑ۔ الخُشّ ٹیلہ۔ الخاشّ و حد الخشّ: پیدل۔ الخُشاش: ردی۔ الخَشاش واحد خَشاشة جمع اخِشّة (ح): زمین کے کیڑے مکوڑے، چھوٹے پرندے، چڑیاں (ح) پہاڑی سانپ، غضب۔ حرّكَ خشاشَهُ: وہ غضبناک ہوا۔ خِشاشا الشیء: چیز کے دونوں کنارے۔ الخَشّاء جمع خشّاوات و خَشاشِی: گارے اور کنکر والی زمین۔ الخُشّاء: کان کے پیچھے ابھری ہوئی ہڈی جو دو کانوں میں دو ہوتی ہیں۔

۵۔ خشخش خشخشةً و تخشخش السلاحُ او الحُلِیُّ: ہتھیاروں یا زیورات کی جھنکار سنائی دینا۔ ــفلانٌ بین الشجر او القوم: درخت یا لوگوں کے درمیان داخل ہو کر غائب ہو جانا۔ الخَشخاش واحد خشخاشة (ن): پوست کا پودہ۔ (۲) ایک امریکی الاصل پودہ جس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں اور اس کے پھل پکا کر کھائے جاتے ہیں، اس کی بو خربوزہ جیسی ہوتی ہے۔ مصر جیسے گرم علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔

○ خِشاش: کیڑے مکوڑے۔

خشب: ۱۔ خشَبَ ـِ خشْبًا الشیءَ بالشیء: چیز کو چیز سے ملانا، خلط ملط کرنا۔ المَخشوب: مخلوط نسل والا۔

۲۔ خشَبَ ـِ خشْبًا الشیءَ: کو صاف کرنا، چھانٹنا۔ الخَشیب جمع خُشُب و خشائب من السیوف: صیقل شدہ تلوار۔

۳۔ خشَبَ ـِ خشْبًا السیفَ: تلوار کو صیقل کرنا۔ تخشّب السیفُ تلوار کو لکڑی جیسا بنانا۔ اِختشَبَ السیفَ: تلوار کو لکڑی جیسا بنانا۔ الخَشب: تیز کرنا۔ الخشیب

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جمع خُشُب و خَشَائِب من السیوف صیقل شدہ تلوار۔۔ من القِسِیّ تراشی ہوئی کمان۔

۴۔خَشَبَ ۔ خَشْبًا الکلامَ و العملَ کلام اور کام کو اچھی طرح نہ کرنا ۔ و اِخْتَشَبَ الشِعر بلا تنقیح محض آمد کے مطابق شعر کہنا۔الخشِیب جمع خُشُب و خَشَائِب ردّی۔۔ من السیوف تازہ ڈھالی ہوئی تلوار۔المَخْشُوب جسے اچھے طریقے سے نہ کیا گیا ہو، جس کو اچھی تعلیم و تربیت نہ دی گئی ہو۔

۵۔خَشُبَ الشیءُ موٹائی میں لکڑی کی طرح ہونا۔ تَخَشَّبَ چراگاہ میں سوکھی گھاس چرنا۔اِخْشَوْشَبَ لکڑی کی طرح سخت ہونا۔۔ فی عیشه مشقت پر صبر کرنا۔ الخَشَب جمع خَشَب و خُشُب و خُشْب و خُشْبان موٹی لکڑی (ز) نباتات کی سخت قسم۔الخَشَب الوردی (ز) قیمتی لکڑی کی متعدد انواع۔الخَشِب و الأخْشَب موٹا، کھردرا۔ عیشٌ خشِبٌ ناپسندیدہ، زندگی، تکلیف والی گزران۔الخشِیب لمبے قد والا، سخت تنگی ہڈیوں والا کہا جاتا ہے۔جَمَلٌ خشِیب موٹا اونٹ۔ الخَشَّاب جمع خَشَّابة چوب فروش، لکڑی فروش المِخْشَاب پست قد موٹا آدمی۔الخَشْبَاء سنگلاخ زمین جس میں پتھر، کنکر اور گارہ ہو۔

○خَشَّبَ لکڑی بن جانا، چوبی یا لکڑی جیسا ہو جانا۔ ۔ہ (دروازے میں) درمیانی یا حاشیہ پر تختے لگانا، پردے لگانا، کو لکڑی سے منڈھنا، پر لکڑی کی تہہ چڑھانا کے میان میں لکڑی لگانا، کی تختہ بندی کرنا۔ (فرش یا چھت میں) تختے لگانا، پر تختوں کا حاشیہ لگانا۔ تَخَشَّبَ لکڑی بن جانا، چوبی یا لکڑی جیسا ہو جانا، سخت ہو جانا مضبوط ہو جانا، (دہشت سے) سخت ہو جانا منجمد ہو جانا۔خَشَب جمع اَخْشَاب لکڑی، بھدی عمارتی لکڑی، عمارت کی لکڑی، فرنیچر وغیرہ بنانے کی لکڑی۔خَشَبَة جمع خَشَبات و اخشاب لکڑی کا ٹکڑا، عمارتی لکڑی، شہتیر، تختہ، خشبة المیّت تابوت، مردے کو دفن کرنے کا صندوق۔خشبة المسرح سٹیج (تھیٹر کا)۔خَشَبِیّ لکڑی کا، لکڑی کے متعلق، لکڑی کا بنا ہوا، لکڑی جیسا، عمارتی لکڑی کا، فرنیچر کی لکڑی کا، بھدی لکڑی کا۔ خَشَّاب عمارتی لکڑی کا تاجر جمع خَشَّابة۔ تَخْشِیبَة جمع تخاشیب بیرک، لکڑی کا شیڈ۔ تَخَشُّب تختی۔مُتَخَشِّب جما ہوا، سخت، مضبوط۔

○خَشْخَشَ جھن جھن کرنا، کھڑکھڑانا کھٹا کھٹ کرنا، پٹ پٹ کرنا، چھن چھن کرنا جھرجھرانا، کھرکھرانا، سرسرانا۔خَشْخَشَة جمع خشخشات آواز، جھنک، جھنکار۔جھنجھناہٹ، چھن چھن، کھڑکھڑاہٹ، کھڑکھڑ، جھجھنا، غل غپاڑہ، ہنگامہ، سرسراہٹ۔ دھماکا، گڑگڑاہٹ، شور۔

خشر ا۔خَشَرَ ۔ خَشْرًا دسترخوان پر ردی چیز چھوڑ دینا۔۔ الشیءَ سے اس کا ردی حصہ چن کر نکالنا۔ خُشِرَ ۔ خَشَرًا حریص ہونا۔الخُشَار و الخُشَارة دسترخوان کا بچا کھچا، ہر چیز کا ردی حصہ، جو کا دانہ جس میں گودا نہ ہو رذیل لوگ۔الخَاشِر واحد: خاشِرة رذیل۔خاشِرة الناس رذیل لوگ۔

۲۔خَشِرَ ۔ خَشَرًا بزدلی سے بھاگ جانا۔

۳۔خَشْرَمَتِ الضبعُ چرخ کا کھاتے ہوئے آواز نکالنا۔الخَشْرَم جمع خَشَارِمَة شہد کی مکھیوں یا بھڑوں کا دل۔۔ (ح) شہد کی مکھیوں کی ملکہ شہد کی مکھیوں کا چھتہ، نرم پتھر جس سے چونا بنایا جاتا ہے۔ الخُشَارِم بڑی ناک، موٹی آواز۔

○خُشَارَة کھانے کا بچا کھچا، نکما گوشت، اوجھڑی چھیچھڑے، سڑا ہوا یا مردار گوشت، فضلہ، ردی، فضول چیز، وہ پتہ جو چھانٹا جائے، بے کار چیز۔

خشع ا۔خَشَعَ ۔ خُشُوعًا لَهُ کے آگے فروتنی کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا صفت: خَاشِع جمع خُشَّع و خَشَعَة و خاشِعون۔ بَصَرُهُ کی نگاہ کا پست ہونا۔ ببصره اپنی آنکھ کو نیچا کرنا۔۔ الصوتُ آواز کا پست ہونا۔اَخْشَعَهُ کو عاجز کرنا، فروتنی پر برانگیختہ کرنا۔تَخَشَّعَ عاجزی دکھانا خاکساری دکھانا۔۔ و تَخَاشَعَ فروتنی دکھانا۔اِخْتَشَعَ لَهُ سر جھکاتے ہوئے کسی کے آگے عاجزی کرنا۔

۲۔خَشَعَ ۔ خُشُوعًا الشمسُ سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔۔ الورقُ پتوں کا مرجھا جانا۔۔ت الارضُ بارش نہ ہونے سے زمین کا خشک ہو جانا۔

۳۔الخُشْعَة جمع خُشَع پست ٹیلہ۔ الخِشْعَة مردہ ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر نکالا ہوا بچہ۔البقیر وہ ماں جو مر جائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو، تو ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر وہ بچہ نکالا جائے۔مکانٌ خَاشِعٌ وہ جگہ جس کی راہ نہ مل سکے۔جدارٌ خاشِعٌ دیوار جو گر کر زمین کے برابر ہو جائے۔بلدةٌ خاشِعَةٌ وہ شہر جس میں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ ہو۔

○تَخَشَّعَ فروتنی کا اظہار کرنا، فروتن ہونا، خاکسار ہونا، متاثر ہونا۔خُشُوع فرمانبرداری، اطاعت، فروتنی، عاجزی، انکسار، تسلیم۔خاشِع فروتن، خاکسار، اطاعت گزار، فرمانبردار۔

خشف ا۔خَشَفَ ۔ خُشُوفًا و خُشُوفًا فی ملک میں جا کر غائب ہو جانا۔خَشَفَانًا رات کو چلنا۔ اِنْخَشَفَ فی الشیءِ میں داخل ہونا۔الخَشِیف معاملات میں دخل دینے والا۔۔ الرجال رات کو چلنے میں دلیر آدمی۔المِخْشَف بمعنی الخَشِیف الخُشَّاف (ح) چمگادڑ۔

۲۔خَشَفَ ۔ خَشْفًا و خَشَفَة فی السیر تیز چلنا۔ خَاشَفَ الی الشرِّ برائی کی طرف جلدی کرنا، سبقت کرنا۔ کہا جاتا ہے خاشف فی دمه اس نے بدعہدی اور عہد شکنی میں جلدی کی۔سیفٌ خاشِفٌ تیز تلوار، کاٹ دار تلوار۔الخَشُوف من الرجال تیز رفتار آدمی۔۔ من السیوف تیز تلوار، کاٹ دار تلوار۔

۳۔خَشَفَ ۔ خُشُوفًا و خَشَفَانًا البرد سردی کا تیز ہونا۔۔ الماءُ پانی کا جمنا۔ماءٌ خاشِف و خَشِفٌ جما ہوا پانی۔الخَشْف و الخَشِیف سخت برف، نرم مینخ۔

۴۔خَشَفَ ۔ خَشَافَة بالقوم لوگوں کے ساتھ چلنا اور ان کی راہنمائی کرنا۔خَشَّفَ راہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔المِخْشَف رہبر۔

۵۔خَشَفَ ۔ خَشْفًا و خَشَفَةً الجلید چلنے پر برف کا آواز نکالنا۔خَاشَفَ السهمُ نشانہ پر لگنے سے تیر کا آواز دینا۔الخَشْف و الخَشْفة و الخشفة آواز، حرکت، آہٹ۔

۶۔خَشِفَ ۔ خَشَفًا البعیرُ اونٹ کے پورے بدن کا خارش والا ہونا، صفت اَخْشَف مؤنث: خشفاء جمع خُشْف۔

۷۔اَخْشَفَتِ الظبیةُ ہرنی کا بچہ والی ہونا۔الخِشْف (بتثلیث الخاء) جمع خِشَفَة (ح) ہرنی کا نوزائدہ بچہ۔

۸۔الخُشْف ذلت۔الخُشُف و الخُشَف واحد خُشَفه (ح) سبز رنگ کی مکھی۔الخُشَاف (ط) خشک انگور جو پانی میں بھگو کر اس پانی کے ساتھ کھائے جائیں۔خُشَاف الرُّمَّان (ط) انار کے دانے جنہیں چینی ڈال کر میٹھا کر کے کھائے جائیں۔

○خُشَاف مختلف پھل جنہیں عرق گلاب وغیرہ میں بھگویا اور نیم پخت کیا جاتا ہے، پھلوں کا تازہ مربہ، قوام میں ڈالے ہوئے پھل۔

○خُشْکَار دوا، دلیا، چوکر، بھوسی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

○ خَشْكَرِيشة: پپڑی، کھرنڈ، سرکی خشکی بفا، زخم کا مردار حصہ۔

خشل: ۱۔ خَشَلَ ـُ خَشْلًا ہٗ: کو رذیل بنانا، حقیر بنانا۔ —الشرابَ: شراب صاف کرنا۔ خَشِلَ ـَ خَشَلًا الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ خَشَّلَ ہٗ: کو رذیل بنانا، حقیر بنانا۔ تَخَشَّلَ: ردی چیز لانا۔ الخَشْل واحد خَشْلَة: خالی کیا ہوا انڈا۔ الخَشَل واحد خَشَلَة: ہر ردی چیز۔

۲۔ تَخَشَّلَ: ذلیل ہونا۔ الخَشْل و الخَشِل: کمزور، کہا جاتا ہے۔ رجلٌ خَشْلٌ فَشْلٌ و خَشِلٌ فَشِلٌ: کمزور آدمی۔

۳۔ تَخَشَّلَ: سر جھکانا۔ الخَشْل واحد خَشْلَة: ہر کھوکھلی چیز۔

خشم: خَشَمَ ـِ خَشْمًا ہٗ: کی ناک کی جڑ توڑنا۔ خَشِمَ ـَ خَشَمًا و خُشومًا: چوڑی ناک والا ہونا۔ — الانفُ: ناک کا بدبودار ہونا۔ —خَشَمًا و اَخْشَمَ و تَخَشَّمَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ خَشَّمَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ — ہٗ الشرابُ: کو شراب کا مست و متوالا کرنا۔ الأَخْشَم مؤنث خَشْماء جمع خُشْم: چوڑی ناک والا، بو محسوس نہ کرنے والا۔ انفٌ أَخْشَم: بدبودار ناک۔ الخُشَام: بڑی ناک والا۔ الخَيْشُوم جمع خَياشِيم: ناک کی جڑ۔ الخَياشِيم: ناک کے اندر کی رگیں۔ خَياشِيمُ الجبال: پہاڑوں کی چوٹیاں۔ کہا جاتا ہے۔ اشرفت خياشيمُ الجبال۔ پہاڑی کی چوٹیاں بلند ہوئیں۔

○ خَشَّمَ ہٗ: کو مدہوش کرنا، مست کرنا، بے ہوش کرنا بے خود بنانا، کو مخمور کرنا۔ خَشْم: ناک، منہ، سوراخ، راستہ، نکاس، نکلنے کا راستہ۔ خَيْشُوم جمع خَياشِيم: ناک، گلپھڑے۔ خياشيم: ناک۔

خشن: خَشُنَ ـُ خُشْنَةً و خَشانَةً و خُشُونَةً و مَخْشَنَةً: سخت اور کھردرا ہونا صفت: خَشِن جمع خِشان۔ خَشَّنَ ہٗ: کو سخت اور کھردرا بنانا۔ کہا جاتا ہے۔ خَشَّنَ صدرَہٗ: اس نے اس کو سخت غضبناک کیا۔ خاشَنَ ہٗ: کے ساتھ سختی کا سلوک کرنا۔ تَخَشَّنَ: سخت کھردرا ہونا، سخت زندگی گزارنا، موٹے کھردرے کپڑے پہننا۔ تَخاشَنَ: بتکلف سختی برتنا، سختی کرنا۔ اِسْتَخْشَنَ الشيءَ: کو سخت اور کھردرا پانا۔ اِخْشَوْشَنَ: بمعنی تَخَشَّنَ۔ اسی سے حضرت عمرؓ کا قول ہے۔ اخشوشنوا فانّ النعمَ لا تدوم: سخت زندگی گزارا کرو۔ کیونکہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتیں۔

—علیه صدرُہٗ: پرغضبناک ہونا۔ الخَشِين: اکھڑ طبیعت کا۔ الأَخْشَن مؤنث خَشْناء جمع خُشْن: سخت، کھردرا۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ اَخْشَنُ: بدحال آدمی۔ اَخْشَنُ الجانب: طاقت سے باہر، دشوار۔ کتیبة خَشْناء: بہت ہتھیاروں سے لیس فوجی دستہ۔

○ خَشُنَ ـُ خُشُونَةً: کھردرا ہونا، سخت ہونا، خام ہونا نامکمل ہونا، ناتراش ہونا، صیقل شدہ نہ ہونا۔ خَشَّنَ ہٗ: کو کھردرا کرنا یا بنانا، بھدا بنانا بھونڈا بنانا۔ خاشَنَ ہٗ: کے ساتھ بدلحاظ ہونا، غیر مہذب ہونا، اجد یا گنوار ہونا۔ تَخَشَّنَ: سخت، غیر مہذب یا بھونڈے انداز کا مظاہرہ کرنا، سخت ہونا، ناہموار ہونا، سخت زندگی گزارنا، اِخْشَوْشَنَ: سخت ہونا، کھردرا ہونا، نامہذب ہونا، کندہ ناتراش ہونا۔ سخت زندگی گزارنا۔ خَشِن جمع خِشان: کھردرا، خام، ناتراشیدہ، سخت، غیر مہذب، بداخلاق، بدلحاظ، بے سلیقہ، بے ادب، بدتمیز، گستاخ تند، کڑا، بے ہنگم، بھونڈا، بھدا، سخت (زندگی)، گرفتہ، بیٹھی ہوئی، گلوگرفتہ، بھاری یا بھرائی ہوئی (آواز) خَشِنُ اللمس: چھونے میں کھردار، ناہموار، جھری دار۔ خَشِنُ الخُلُق: بھونڈے اخلاق والا، اجڈ، گنوار۔ خَشِنُ القِشْرَة: موٹے چھلکے دار۔ الجنسُ الخَشِنُ: جنس قوی (جنس نازک کے مقابلہ میں) مرد۔ اَخْشَن مؤنث خَشْناء جمع خُشْن: کھردرا، سخت، ناتراشیدہ، غیر مہذب، بداخلاق، بدلحاظ، بے سلیقہ، بے ادب، بدتمیز، گستاخ، تیز، تند سخت، زوردار، قوی، بے ہنگم، بھونڈا، بھدا، گنواروں کا سا۔ الخَشْناء: غیر مہذب اور غیر تعلیم یافتہ لوگ۔ خُشُونَة: کھردراپن، اکھڑ پن، بدمزاجی، رکھائی، کرختگی، سختی، گھٹیا پن، کچا پن، تندی، بے ہودگی، بدتہذیبی، گستاخی، بدتمیزی۔

خشی: ۱۔ خَشِيَ ـَ خَشْيًا و خِشْيًا و خَشْيَةً و خَشاةً و خَشَيانًا و مَخْشِيَةً و مَخْشاةً ہٗ: سے ڈرنا خوف کرنا۔ خَشّى تَخْشِيَةً و خَشّاءً ہٗ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، مرعوب کرنا۔ —ہٗ فلانًا: کو سے ڈرانا، کو سے خوف دلانا۔ تَخَشّى تَخَشِّيًا ہٗ: سے ڈرنا، خوف کرنا، خوف کھانا۔ الخَشِيّ و الخاشي والخَشْيان و الخَشِي مؤنث خاشِيَة و خَشِيَة و خَشْيانة و خَشْيا جمع خَشايا: ڈرنے والا۔ الأَخْشى: اسم تفضیل، زیادہ ڈرنے والا۔ کہا جاتا ہے۔ هذا المكان اَخْشى من ذاك: یہ جگہ اس سے زیادہ خوف کی ہے۔

۲۔ الخَشِي و الخَشِيّ من النبات: خشک پودا، گھاس۔

○ خَشِيَ ـَ خَشْيًا و خَشْيَةً ہٗ/ہٗ: سے ڈرنا، خوف کھانا۔ —علی: کے لئے خوف کھانا، ڈرنا۔ —ہٗ: سے خوف زدہ ہونا۔ خَشّى ہٗ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، چونکانا، ڈرا کر بھگا دینا، میں دہشت پیدا کرنا، کو چوکس یا چوکنا کرنا کو خطرہ سے خبردار کرنا، گھبرا دینا۔ تَخَشّى: بمعنی خَشِيَ۔ اِخْتَشى: گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، شرمندہ ہونا۔ خَشْيَة: خوف، ڈر، پریشانی، اندیشہ، خدشہ، فکر تشویش، خشيةً من: کے خوف سے۔ اَخْشى: زیادہ ڈرپوک یا بزدل، زیادہ خوف زدہ، جس سے زیادہ ڈرا جائے زیادہ خوف زدہ کرنے والا۔ خَشْيان مؤنث: خَشْيا جمع خَشايا: ڈرپوک، بزدل، پریشان، خائف، اندیشناک خاشٍ: ڈرپوک، بزدل، پریشان، خائف، اندیشناک۔

خصّ: ۱۔ خَصَّ ـُ خَصًّا و خُصوصًا و خُصوصَةً و خُصوصِيَّةً و تَخِصَّةً و خِصِّيَّةً و خِصِّيصَى و خِصِّيصاءَ فلانًا بالشيء: کو سے خصوصیت دینا، سے کچھ خاص کرنا۔ کہا جاتا ہے: خَصَّہٗ بالودّ: اس نے اسی سے محبت کی۔ —خُصوصًا الشيءُ: خاص ہونا۔ —الشيءَ لنفسه: کو اپنے لئے مخصوص کرنا، یا چن لینا۔ خَصَّصَ الشيءَ: کو خاص کرنا، —ہٗ بالشيء: کو کے ساتھ خاص کرنا۔ اخْتَصَّ بالشيء: سے خاص ہونا۔ —ہٗ بالشيء: کو سے خاص یا مخصوص کرنا۔ اس سے قول ہے: اللّٰهُ يختصّ برحمته من يشاء: اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ تَخَصَّصَ بالشيء: سے مخصوص ہونا، میں منفرد ہونا۔ —الرجلُ: خاص لوگوں میں سے ہونا۔ اِسْتَخَصَّ الشيءَ: چاہنا یا درخواست کرنا کہ چیز اس کے لئے مخصوص ہو۔ الخاصّ (فا): خاص (عام کی ضد)، یکتا، تنہا۔ الخاصّة جمع خواصّ: خاص (عام کی ضد) خود اپنے لئے خاص کی ہوئی چیز۔ خاصةُ الملك: بادشاہ کے مقربین، عمائدین سلطنت، —والخَواصّ والخُصّان والخِصّان من القوم: قوم کے چیدہ، بزرگ و برگزیدہ لوگ۔ کہا جاتا ہے۔ انما يفعل هذا خُصّانُ الناس: اس کو برگزیدہ لوگ ہی کرتے ہیں یعنی قوم کے بڑے ہی ایسے کام سرانجام دیا کرتے ہیں۔ الخاصِيّة جمع خاصِيّات و خَصائِص: خاصہ کی طرف نسبت۔ الأَخَصّ: افضل، کہا جاتا ہے: لم يكن في اَطِبّائه اخصّ من هذين: اس کے معالجین میں ان دو میں سے افضل کوئی اور نہ تھا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الخصوص والخُصُوص: علیحدگی، خصوصیت، (عموم کا مقابل) انحصار (اطلاق کا مقابل)۔ کہا جاتا ہے علی الخُصُوص و خُصُوصاً: خاص طور پر جیسے مثلاً الحریری کا یہ قول لن یصقل الخاطر و ینشط الفاتر، کقائلة الهواجر و خُصُوصاً فی شهری ناجرٍ: حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے یعنی خاصًّا ناجرا یا مصدر کی بنا پر یعنی اخصّ خصوصاً ناجرا فی شَهْرَی ناجر: جون اور جولائی کے دو مہینوں میں۔ خاص طور پر جون اور جولائی کے مہینوں میں کوئی بھی فحش گو عورت کی طرح خیال کو جلا نہیں دے گا اور نہ کمزور کو چشت کرے گا۔ خُوَیْصَة الانسان: خدمت گاری کے لئے مخصوص شخص۔

۲۔ خَصَّ ۔َ خصاصةً و خَصَاصاً و خَصَاصاءً: محتاج ہونا۔ مفلس ہونا، ضرورت مند ہونا۔ اِخْتَصَّ: محتاج ہونا، حاجت مند ہونا مفلس ہونا۔ الخَصَاصَة: غربت، مفلسی، بدحالی۔ کہا جاتا ہے۔ سددتُ خصاصةَ فلان: میں نے فلاں شخص کی مفلسی کو دور کر دیا۔

۳۔ الخُصّ جمع اَخْصاص و خُصُوص و خِصاص: بانس یا لکڑی کی جھونپڑی، شراب فروش کی دوکان۔ الخِصّ: ناقص کہا جاتا ہے شہر خِصّ: ناقص مہینہ۔ خاصّةُ النبات: بوئی کی قوت اور اثر۔ الخُصَاصة جمع خُصاص: انگور توڑنے کے بعد بیل پر رہ جانے والے انگور کے چھوٹے چھوٹے گچھے، تھوڑی چیز۔ الخَصَاص: واحد خَصَاصة: دروازہ یا برقع وغیرہ کا شگاف، سوراخ (کہا جاتا ہے بدا القمرُ من خصاص الغیم: چاند بادل کے درمیان سے ظاہر ہوا۔ لمحته من خصاص الباب: میں نے اسے دروازے کی جھری سے دیکھا) عمارت، مکان وغیرہ کے شگاف۔

○ خَصَّ ۔ُ خَصًّا ہ: کو ممتاز کرنا، کی مدد کرنا، ہمدردی کرنا (خصوصاً دوسروں کے سامنے) کو چن لینا، کو خصوصی اعزاز دینا، — ہ ب: کو کچھ عطا کرنا، دینا، کو کے لئے وقف کرنا، مخصوص کرنا۔ —ہ: پر قابض ہونا، کا مطالبہ کرنا۔ —ہ: سے خصوصی طور پر متعلق ہونا، کی خصوصیت ہونا کا وصف ہونا، کا مخصوص ہونا، —ہ: سے خاص طور پر متعلق ہونا، کے لئے خصوصی طور پر قانونی یا معقول ہونا۔ — ہ/ہ: سے تعلق رکھنا، سے متعلق ہونا۔ —ہ: سے خاص تعلق رکھنا، سے علاقہ رکھنا، سے متعلق ہونا۔ خَصَّهُ بِعِنایَتِهِ: کو اپنی توجہ کے لئے مخصوص کرنا، پر اپنی توجہ سے مہربانی کرنا۔ خَصَّهُ بالذکر: کا خصوصی ذکر کرنا۔ وَاَخُصُّ منهم: ان میں، میں خاص طور پر ذکر کرتا ہوں۔ هذا لا یَخُصُّنی: یہ میرے متعلق نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ خَصَّصَ ہ: کی صراحت کرنا، کی تعیین کرنا، کی تفصیلات دینا، کا نام لینا، کو ایک ایک کر کے لکھنا، کا خاص خیال رکھنا، کی طرف خصوصی توجہ دینا۔ —ہ ل: کو تک محدود رکھنا۔ —ہ ل: کو تک محدود رکھنا۔ ہ/ہ ل: کو کے لئے الگ کرنا، مخصوص کرنا یا خاص مقصد کے لئے متعین کرنا، کو کے لئے مقرر کرنا، مامور کرنا، الگ کرنا، علیحدہ کرنا چن لینا، کو کے لئے تجویز کرنا، مختص کرنا کو کے لئے اٹھا رکھنا، سنبھال رکھنا۔ — ہ ب: کو کسی خاص شعبہ کا پابند کرنا۔ تَخَصَّصَ ل/ ب/ فی: کا متخصص بننا، ماہر ہونا، کا سپیشلسٹ ہونا۔ — ل: اپنی پوری توجہ کے لئے مخصوص کرنا، کو تن دہی سے کرنا میں حصہ لینا، شریک ہونا، سے مخصوص ہونا، کے لئے چنا جانا، مامور ہونا، مقرر ہونا، مختص ہونا۔ اِخْتَصَّ ہ ب: کو سے ممتاز کرنا، کی سے مدد کرنا، پر سے مہربانی کرنا، کو کا اعزاز دینا، کے لئے کوئی چیز مخصوص کرنا کو کوئی چیز (دوسروں کے مقابلہ میں) دینا، عطا کرنا، بہم پہنچانا کو کچھ (اپنی خدمات) نذر کرنا۔ — ہ (لنفسه): کو بلا شرکت غیرے رکھنا، کا دعوی کرنا، مطالبہ کرنا، پر حق جتانا۔ اختص به نفسَهُ: کا دعوی کرنا۔ اختص ب: کا اکیلا مالک ہونا، دوسروں پر یہ فوقیت رکھنا کہ۔ سے مخصوص ہونا، متعلق ہونا، تعلق رکھنا، میں مستند ہونا، اہل ہونا، مجاز ہونا، کا اختیار رکھنا۔ خَصّ: کاہو، سلاد۔ خُصّ جمع خِصَاص و اَخصاص و خُصُوص: جھونپڑی، جھونپڑا، چھپر۔ خَصَّة: پانی کی تیز دھار۔ خَصَاص: شگاف، درز، درمیانی فاصلہ، دراڑ، خلا۔ خَصَاصَة: درز، شگاف، خلا، خصیصة جمع خصائص: خاص خصوصیت، وصف، یا خوبی، کمال، امتیازی خصوصیت، تخصیص، انفرادیت، خاصہ، خاصیت، ندرت۔ خصیصا: خاص طور پر، خاص کر، بالخصوص۔ فی خصوص بخصوص اور من خصوص: کے بارے میں، کے متعلق، خصوصاً۔ خُصُوصاً: خاص طور پر، خاص کر، بالخصوص۔ بهذا الخصوص اور من هذا الخصوص: اس سلسلہ میں، اس ضمن میں اس معاملہ میں، اس کے بارے میں، اس کے متعلق، اس پہلو سے۔ علی الخصوص اور علی وجه الخصوص: خاص طور پر، خاص کر بالخصوص، خصوصاً۔ خُصُوصِیّ: خاص، غیر معمولی، نجی، ذاتی، انفرادی، اپنا۔ خصوصیة: قربت، الفت،

مفلوک الحالی، بے نوائی، ضرورت، احتیاج، ضرورت مندی۔ اَخَصّ: زیادہ خاص، خاص تر، زیادہ خصوصی، زیادہ مخصوص، خصوصاً بالخصوص۔ اِخِصَّاء: جگری دوست، لنگوٹیے یار، راز دار، ہمراز (جمع ہے) اِخْصَائی: سپیشلسٹ، کسی (اختصاص شعبے کا) ماہر جمع اَخِصائیون۔ تخصیص: (کسی شعبہ میں) تخصص پیدا کرنا، ماہر بننا، مہارت (Spacielization) تفصیل، تصریح، نام بہ نام ذکر، ایک ایک کر کے لکھنا، مقرر کرنا، مامور کرنا، معین کرنا (کسی مقصد کے لئے) مقررہ حصہ، تقسیم، حصہ دہی، تعین، استقرار، نامزدگی، ریزرویشن (جمع تخصیصات): تصرف، قبضہ، مالی اختصاص، قرضے علی تخصیص اور علی وجه التخصیص: بالخصوص، خاص طور پر۔ تَخَصُّص (کسی علمی شعبہ میں) تخصص، سپیشلائزیشن، اختصاص جمع اختصاصات: دائرہ اختیار، اہلیت، استعداد، لیاقت، قابلیت، خاص علاقہ، عملداری۔ (جمع): خصوصی اختیار، امتیازی حقوق، مراعات، اجارہ داریاں۔ ذو (ذات) الاختصاص: کماحقہ اہل، مختار، مجاز، ذمہ دار، صاحب اختیار۔ دائرة الاختصاص: صلاحیت کی حد، حلقہ اقتدار، حلقہ اختیار، عملداری، میدان، شعبہ اِختِصَاصِی۔ جمع اختصاصیون: سپیشلسٹ، خاص: خاص، غیر معمولی، مخصوص، معین، ممتاز، —ب: سے متعلق، (کے لئے) مخصوص، مختص، مقرر، الگ کیا ہوا، تھام کر رکھا ہوا، کے لئے خصوصی طور پر درست، جائز، موزوں، ضروری، برمحل کی خصوصیت، کا وصف۔ خاص: ممتاز، نجی، خاص، مخصوص۔ جریدة خاصة ب: کے لئے پیشہ ورانہ رسالہ۔ الخاص والعام: خاص و عام، بلند و پست، سب لوگ۔ الطبیب الخاص: خاص معالج۔ خاصّة جمع خَواص: مخصوص خاصہ، نجی قبضہ، امتیازی خصوصیت، خاصہ، خصوصیت وصف، صفت، روح، ذاتی طبیعت، بڑی شخصیات، ممتاز لوگ۔ الخاصّة: بالائی طبقہ، تعلیم یافتہ لوگ خاصة و بخاصةٍ: خصوصاً، خاص طور پر، خاص کر، بالخصوص فی خاصةِ انفسهم: ان کے دلوں کی گہرائی میں۔ خَاصِیَّة جمع خاصیات و خصائص: امتیازی خصوصیت، خاصہ، علمیت، اہلیت، خصوصی امتیاز، امتیازی حق، حلقہ اختیار، قابلیت، صلاحیت، استعداد، اہلیت، خُوَیْصَّة: کسی کا اپنا کاروبار ذاتی معاملہ۔ یدخل فی خویصة امری: وہ میرے نجی معاملات میں دخل دیتا ہے۔ مخصوص: خاص۔ مُخَصَّص لِ: کے لئے چنا ہوا، الگ کیا ہوا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
marfat.com
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مختص کیا ہوا، کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، الاٹ شدہ، تقسیم شدہ، مختص شدہ جمع مخصصات (مالی) تعینات، تصرفات، قرضے۔ (روزانہ) الاؤنس، راشن۔ مخصصات اضافیہ زائد الاؤنس۔ مخصصات سول فہرست۔ مختصات صلاحیتیں، سلطات المختصہ ارباب اختیار۔ الدوائر المختصہ بااختیار حلقے۔

حصب حصب - حصب - حصباً المکانُ جگہ کا سرسبز، ہرا بھرا یا زرخیز ہونا، صفت: خصِب و خصیب ، مخصب و مخصاب۔ اخصب المکان جگہ کا سرسبز ہونا، زرخیز ہونا، ہرا بھرا ہونا۔ — اخصب اللہ المکان اللہ تعالیٰ کا جگہ کو سرسبز اور زرخیز کرنا۔ — الشاۃ بکری کا سرسبزی میں پہنچنا۔ — القوم قوم کا سرسبزی پانا۔ کہا جاتا ہے۔ اخصب جناب القوم قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ محلہ میں سرسبزی و شادابی پائی گئی۔ الخصب جمع اخصاب زرخیزی، سرسبزی زندگی کی فراخی، خوش حالی۔ کہا جاتا ہے۔ بلد خصب و اخصاب و ارض خصبۃ و خصب و ارض خِصبۃ او خصبۃ سرسبز و شاداب شہر اور زمین۔ الخِصاب واحد خصابہ بہت پھلدار کھجور کا درخت۔ الخصیب: صاحب خیر و فیض۔

○ خصب - و خصب - خِصباً (مٹی کا) سرسبز ہونا، زرخیز ہونا، خصّبہ کو زرخیز بنانا، بارآور بنانا، ثمردار بنانا، پھل لانے کے قابل بنانا۔ اخصب بمعنی خصب۔ خصب زرخیزی، شادابی، بارآوری بہتات، پوری رسد، کثرت۔ خصب و خصیب: زرخیز بارآور، سرسبز، فصل دینے والی۔ پیدا کرنے کے قابل، بہت پیداوار والی (زمین)۔ خُصُوبۃ: زرخیزی، شادابی بارآوری۔ تخصیب: زرخیز بنانا، ثمرداری، بارآوری۔ اخصاب: زرخیزی، شادابی، بارآوری۔ مخصِبات کھادیں، کیمیائی کھادیں۔ مخصب: زرخیز، بارآور، سرسبز، فصل دینے والی، پیدا کرنے کے قابل، بہت پیداوار والی۔ (زمین)

حصر ۱۔ خصِر - خصَرًا الیومُ: دن کا ٹھنڈا ہونا۔ الرجلُ: سردی سے کے اطراف اعضاء میں تکلیف ہونا۔ اَخصرَ القرُّ انامِلَہ: سردی کا کی انگلیوں کو ٹھنڈا کر دینا۔ الخصَر ٹھنڈ، سردی۔ الخصِر: ٹھنڈا۔

۲۔ خاصر مخاصرۃً ہٗ: کا ہاتھ پکڑ کر چلنا، کے پہلو میں ہاتھ ڈالنا یا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالکر چلنا۔ تخصّر پہلو پر ہاتھ رکھنا۔ تخاصَرَ: کمر پر ہاتھ رکھنا۔ القومُ: ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا۔ اِختَصَر بالعصا: چلنے میں لاٹھی پر ٹیک لگانا۔ الخَصْر جمع خصُور: کمر۔ الخِصار: ازار، الخاصِرَۃ جمع خَواصِر من الانسان: پہلو۔ المَخصَّر: پتلی کمر والا۔ رجل مَخْصُور: وہ شخص جس کی کمر یا پہلو میں درد ہو۔ المِخْصَرَۃ جمع مَخاصِر: ٹیک لگانے کی لاٹھی وغیرہ۔

۳۔ تَخَصَّر بالمِخْصَرَۃ: لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں تھامنا۔ اختَصَر الرجلُ: ہاتھ میں لاٹھی وغیرہ لینا۔ المِخْصَرَۃ جمع مَخاصِر: کوڑے جیسی کوئی چیز، چھڑی جس کو بادشاہ تقریر یا خطبہ کے وقت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔

۴۔ اِختَصَر الکلامَ: کلام کو مختصر کرنا۔ — الطریقَ: قریب ترین راستہ اختیار کرنا۔ — فی الشیء: کسی شئے کے فضول حصہ کو حذف کر دینا۔ اَخْصَر: اختصر سے اسم تفضیل، جو خلاف قیاس ہے۔ مَخاصِرُ الطریق: قریب ترین راستے، نزدیک کے راستے۔ الاختصار: مختصر نویسی، شارٹ ہینڈ۔

۵۔ خَصْرُ (جمع خُصُورُ) القَدَم: پاؤں کے تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے نہ لگے۔ المُخَصَّر: کہا جاتا ہے۔ ھو مُخَصَّرُ القدمین: یہ وہ شخص ہے جس کا تلوا زمین پر نہیں ٹکتا۔ بلکہ صرف پنجہ اور ایڑی زمین پر لگتی ہے۔

○ خَصِرَ - خَصَراً: ٹھنڈا ہو جانا، سردی لگنا۔ خاصَرَہ: کو کمر کے گرد بھینچنا، کی کمر کے گرد ہاتھ رکھنا۔ اختصرہ: کو مختصر کرنا، کی تلخیص کرنا۔ خَصْر جمع خُصُور: کولہا، کمر۔ مِخصَرَۃ جمع مَخاصِر: چھڑی، لاٹھی، عصا، عصائے حکومت، عصائے شاہی۔ بالاختصار اور باختصار: مختصراً، قصہ کوتاہ، المختصر، الغرض۔ خاصِرَۃ جمع خَواصِر: کولہا، کمر، شوکۃ فی خاصرتہ: کے پہلو میں کانٹا۔ مُختَصَر: مختصر کیا ہوا، مختصر لفظوں میں بیان کیا ہوا، خلاصہ کیا ہو، تلخیص کیا ہوا، مختصر، مجمل، مختصر، موجز، جامع مختصر اور جامع، جمع مختصرات: مختصر اقتباس، مختصر تشریح، خاکہ، خلاصہ، مُلَخَّص، تلخیص، ماحصل، لب لباب۔

خصف ۱۔ خَصَفَ ـِ خَصْفاً و اَخصَفَ و اختصف النعل: جوتا سینا، جوتے کی مرمت کرنا، جوتے میں پیوند لگانا۔ — الشیءَ علی الشیء: چیز پر چیز چپکانا کہا جاتا ہے۔ ھم یخصفون أقدامَ القومِ بِاقدامِھم: وہ لوگ قوم کے نقش قدم پر چلتے اور ان کی حرف بحرف پیروی کرتے ہیں۔ خُصِفَ بہ: کے پیچھے کیا جانا، کے لاحق کیا جانا۔ الخصف (مص) جوتا۔ الخَصَف و الخَصَفَۃ: چمڑے کا ٹکڑا جس سے جوتے کو سیا جاتا ہے۔ الخُصفَۃ: جوتے وغیرہ کا سوراخ۔ الخَصّاف: موچی۔ الخَصِیف: سلا ہوا جوتا۔ المِخْصَف جمع مَخاصِف: ستالی۔

۲۔ خَصَّفَ: بدخلق و بدمزاج ہونا۔

۳۔ خَصَّفَ: تکلف سے اس چیز کی کوشش کرنا جو اس کے پاس نہ ہو۔

۴۔ خصَّفَ ہُ الشیبُ: بڑھاپے سے کسی کے آدھے بال سفید ہو جانا۔ اور ان کی سیاہی سفیدی یکساں ہو جانا۔ الخَصَف: سفید اور سیاہ سے مرکب رنگ۔ الخَصِیف: راکھ، — والأخصَف: سفید اور سیاہ رنگ کا۔ سفید پہلوؤں والا گھوڑا یا بکری۔ شاۃ مَخصُوفَۃ: سیاہ و سفید رنگ کی بکری۔

۵۔ الخَصَفَۃ جمع خَصَف و خِصَاف: کھجور وغیرہ کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری، گاڑھا کپڑا۔ الخَصیف: تازہ دودھ جو دہی میں ملایا گیا ہو۔ الخَصّاف: بڑا جھوٹا۔

خصل: ۱۔ خَصَلَ ـُ خَصْلًا الشیءَ: کو کاٹنا، جدا کرنا۔ خَصَّلَ ہٗ: کے ٹکڑے کرنا۔ — الشجرَ: درخت کو چھانٹنا۔ الخُصْلَۃ جمع خُصَل: بالوں کا گچھا۔ گوشت کا عضو۔ الخُصَل: درخت کے لٹکتے ہوئے اطراف۔ المِخْصَل کاٹ دار تلوار (المِقْصَل کی ایک کمزور لغت)۔ الخَصِیلَۃ جمع خَصِیل و خَصائِل: بالوں کا گچھا۔ المخصال: درانتی۔

۲۔ خَصَلَ ـُ خَصْلًا و خِصالًا القومَ: لوگوں سے فائق و برتر ہونا سے بازی لے جانا، پر سبقت لیجانا، سے بڑھ جانا۔ خاصَلَ خِصالًا و مُخاصَلَۃً ہٗ: سے شرط باندھ کر تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ اَخْصَلَ الرامی: ٹھیک نشانہ پر مارنا۔ تخاصَلَ القومُ: لڑائی اور تیر اندازی میں آپس میں شرط باندھنا۔ الخَصْل جمع خُصُول: تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگنا، لڑائی میں لگائی گئی شرط، جس پر جوا کھیلا جائے۔ کہا جاتا ہے: اَحْرَزَ خَصْلَہٗ وَ اَصابَ خَصْلَہٗ: وہ غالب ہوا۔ الخَصْلَۃ جمع خِصال: تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگنا۔

۳۔ الخَصْلَۃ جمع خِصال: عادت، اچھی ہو یا بری، زیادہ استعمال اچھی عادت کے لئے ہے۔ — والخُصْلَۃ جمع خُصَل: گچھا، کانٹے دار لکڑی، تر لکڑی کا کنارا۔ الخَصِیلَۃ جمع خَصِیل و خَصائِل، پٹھے دار گوشت، کہا جاتا ہے: ارتعدت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فرائصُهُ و اضطربت خصَائِلُهُ: اس کے شانہ کا گوشت لرزنے اور پٹھے والا گوشت تھرتھرانے لگا۔

○ خُصْلَة جمع خُصَل وَخُصُلات: گچھا، خوشہ، گڈی، بالوں کا گچھا، جھرمٹ، جھنڈ، بالوں کی لٹ، زلف، گیسو، بالوں کا چھوٹا سا مٹھا۔ خَصْلَة جمع خِصال: خوبی، اچھائی، خصوصیت، خاصیت، سیرت، عادت، وصف، خصلت، کمال، گن، ذاتی خوبی، صفت، خاصہ، طبعی خصوصیت، خو، فطرت، انفرادیت، ندرت، امتیازی وصف، افتادمزاج، رجحان۔

خصم ۱۔ خَصَمَ ـِ خَصْمًا ہُ: پر جھگڑنے میں غالب آنا۔ خَاصَمَ خِصامًا و مُخاصَمَةً ہُ: سے جھگڑا کرنا، نزاع کرنا۔ اسم: الخُصُومة۔ اخْتَصَمَ ہُ: کو دلیل سمجھانا، کے خلاف دلیل مہیا کرنا۔ تخاصم و اختصم القوم: آپس میں تنازع کرنا، جھگڑنا۔ الخَصْم جمع خُصُوم و خِصام: جھگڑا کرنے والا، مخالف۔ یہ دو، جمع اور مؤنث کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: هُما و هُمْ وَهِيَ خَصْمِي: وہ دونوں، وہ بہت سے اور وہ (عورت) میرے مخالف ہیں۔ عام لوگ خصم کی جمع اخصام استعمال کرتے ہیں۔ الخَصِم جمع خَصِمُون والخُصُوم: مخالف، جھگڑا کرنے والا۔ الخَصِيم جمع خُصَماء و خُصْمان: جھگڑا کرنے والا۔

۲۔ الخُصْم جمع اَخْصام و خُصُوم: گوشہ، جانب۔

○ خَصَمَ ـِ خَصْمًا ہ: (مخالف) کو دلائل میں شکست دینا۔ ـہ من: کو سے منہا کرنا، تفریق کرنا، منفی کرنا، گھٹانا، نکالنا، کم کرنا، مجرا کرنا۔ ـہ: بل، پرونوٹ) پر کمشن دینا، چھوٹ دینا۔ خَاصَمَ ہ: سے جھگڑنا، کے مخالف رائے دینا، سے بحث کرنا، کے خلاف دعوی کرنا، پر نالش کرنا، سے مقدمہ بازی کرنا۔ خَصَم: جھگڑنا، مخالف رائے کا اظہار کرنا، لڑنا۔ ـ مع: سے مقدمہ بازی کرنا، کے خلاف قانونی کارروائی کرنا، قانونی چارہ جوئی کرنا۔ اِنْخَصَمَ: منہا ہونا، تفریق ہونا، مجرا ہونا، کم ہونا، گھٹنا، نکلنا۔ اختصم: جھگڑنا، بحث کرنا، لڑنا۔ خَصْم جمع خُصُوم و اَخْصام: حریف، مقابل، دشمن، مدمقابل، مخالف، (مقدمہ میں) مخالف فریق۔ خَصْم: منہائی، تفریق، مجرائی، کٹوتی، کمشن جمع خُصُوم: قرض، بار، بوجھ، (ادائیگی کی) ذمہ داریاں۔ سِعْرُ الخَصْم: کٹوتی کی شرح، بنک کی شرح۔ خَصْمُ الكمبيالات: بل کی کٹوتی۔ خَصِيم جمع خُصَماء و خُصْمان: حریف، مقابل، دشمن، مدمقابل، مخالف۔ خُصُومة: جھگڑا، بحث، مناقشت، تکرار، مباحثہ، قیل و قال، نزاع، خاندانی جھگڑا، باہمی منافرت۔ خِصام: جھگڑا، بحث، نزاع، مناقشت، مباحثہ۔ قیل و قال، خاندانی جھگڑا، باہم منافرت، مقدمہ۔ مُخَاصِم: حریف، دشمن، مخالف (مقدمہ میں) مخالف فریق، فریق مقدمہ، فریق۔

خصي خَصَى ـِ خِصَاءً ہُ: کو خصی کرنا۔ الخَصِي: فوطوں میں درد والا۔ الخَصِيّ جمع خِصْيَة و خِصْيان: خصیے نکالا ہوا، آختہ۔ الخُصْيَة جمع خُصًى (ع ا)۔ فوطہ، خصیہ۔ خُصْيَةُ البَحْرِ و خُصَى الثعلب و خُصَى الديك و خُصَى الكلب (ن): نباتات کے نام۔

○ خَصَى ـِ خِصاءً ہ: کو آختہ کرنا، ہیجڑا بنانا، نامرد بنانا، خصی کرنا۔ خَصِي جمع خِصْيان و خِصْيَة: ہیجڑا، زنخا، خواجہ سرا۔ خُصْيَة جمع خُصًى: خصیہ، فوطہ، بیضہ۔ مَخْصِي: آختہ کیا ہوا، ہیجڑا بنایا ہوا، نامرد بنایا ہوا، خصی کیا ہوا۔ فرسٌ مخصي: خصی گھوڑا۔

○ اِخْصَائي جمع اخصائيون: سپیشلسٹ، (کسی تخصص کے شعبہ کا) ماہر۔

خضض ۱۔ خَضَّضَ الجارِيةَ: لڑکی کو سفید مہروں اور منکوں سے آراستہ کرنا۔ الخَضَضُ: سفید مہرے۔ الخَضاض: کم حیثیت زیور۔

۲۔ خاضَّ مُخاضَّةً ہُ: سے بیع بالعوض کرنا۔

۳۔ الخَضْخَض: بیہودہ گفتگو (کہا جاتا ہے: منطقٌ خَضْخَضٌ: غلط منطق) طرح طرح کے کھانے۔ الخَضاض: روشنائی، قیدی کی بیڑی، کتے یا بلی وغیرہ کے گلے کا پٹہ۔ رجلٌ خَضاضٌ و خَضاضةٌ: احمق مرد۔ مکانٌ خَضِيضٌ: پانی سے تر جگہ۔

۴۔ خَضْخَضَ الماءَ و نحوهُ خَضْخَضةً فتخضخض: پانی وغیرہ کو ہلانا (نتیجہ میں) پانی وغیرہ کا ہلنا۔ الخُضاخِض من الاماكن: بہت درختوں اور پانی والی جگہ، موٹا، بڑے پیٹ والا آدمی۔ ـ والخَضْخَض: پچھوائی اور پروائی کے درمیان کی ہوا۔

○ خَضَّ خَضًّا ہ: کو ہلانا، ہچکولے دینا، جھنجھوڑنا، دھکا دینا، ہلا دینا، ٹھیلنا۔ ـہ: لوڈرانا، خوف زدہ کرنا، وحشت زدہ کرنا، ڈرا کر بھگا دینا۔ لبنٌ خَضٌّ: مکھن نکلا دودھ۔ خَضَّة: چوٹ، ٹکر، صدمہ، دھکا، ہچکولا، دھچکا، ہول، دہشت، دفعۃً پیدا ہونے والا خوف، خوف۔

خضب ۱۔ خَضَبَ ـِ خَضْبًا و خَضَّبَ الشيءَ: کو رنگنا۔ تَخَضَّبَ و اِختَضَبَ بالحِنّاء: رنگدار ہونا، رنگین ہونا۔ صفت: خَضِيب جمع خُضُب و مَخْضُوب و مُخَضَّب۔ الخِضاب: رنگ۔ الخَضِبَة: بہت مہندی لگانے والی عورت۔ الخَضِيب: رنگا ہوا۔ کہا جاتا ہے: کفٌّ خَضِيبٌ و امرأةٌ خَضِيب: مہندی لگی ہتھیلی، خضاب لگانے والی عورت۔ المِخْضَب: کپڑے دھونے یا رنگنے کا برتن، لگن۔

۲۔ خَضَبَ ـِ و خَضِبَ ـَ خُضُوبًا و خُضِبَ و اَخْضَبَ الشجرُ او المكانُ: درخت یا جگہ کا سرسبز ہونا۔ اِخْضَوْضَبَ اِخْضِيضَابًا الشجرُ: درخت کا سرسبز ہونا۔ الخَضْب جمع خُضُوب: درخت کی سرسبزی، بارش کے بعد نیا اگا ہوا سبزہ (ر) کلوروفل (Chlorophyll): پودوں میں سبز مادہ جو سورج سے روشنی جذب کرتا ہے اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ الخَضُوب: بارش کے بعد نیا اگا ہوا سبزہ۔

○ خَضَبَ ـِ خَضْبًا ہ: کو رنگنا۔ خَضَبَ ـَ و خَضِبَ ـَ خُضُوبًا: پودے کا سرسبز ہونا ہرا ہو جانا۔ خَضَّبَ ہ: کو رنگنا۔ اِخْضَوْضَبَ: پودے کا سرسبز ہونا یا ہو جانا۔ خِضاب: رنگ، جس سے رنگ تیار کیا جائے۔ خون میں سرخ مادہ جو آکسیجن کا حامل اور لوہے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسے انگریزی میں ہائموگلوبن haemo globin کہا جاتا ہے۔ خُضُوب: سبزی، روئیدگی، ہراپن، ہرا رنگ۔ خَضِيب: رنگا ہوا۔ خَضْخَضَ خَضْخَضَةً ہ: کو ہلانا، چلانا، الٹ دینا، ہلانا جلانا، جھونکے دینا پینگ دینا۔

خضد ۱۔ خَضَدَ ـِ خَضْدًا العودَ: لکڑی کو بغیر جدا کئے توڑنا، توڑے بغیر موڑنا۔ ـ الشجرَ: درخت کے کانٹے دور کرنا۔ خَضَّدَهُ: کو کاٹنا۔ تَخَضَّدَ العودُ: لکڑی کا ٹوٹنا۔ اِنْخَضَدَ: لکڑی کا ٹوٹنا۔ ـ ت الثمارُ: پھلوں کا پارا پارا ہونا۔ الخَضَد: کٹی یا ٹوٹی ہوئی لکڑی۔ ـ والخُضاد: اعضاء میں ہونے والا درد۔ خَضَدُ البدن: کاہلی کے ساتھ بدن کا ٹوٹنا درد کرنا۔ ـ السفرِ: سفر کی تھکن، تکان۔ الخَضِد والمَخْضُود: اٹھنے سے عاجز، کمزور۔ رجلٌ مَخْضُود: دلیل سے عاجز آدمی۔ الأخْضَد والمُتَخَضِّد: خمدار، جھکا ہوا، ٹوٹا ہوا۔

۲۔ خَضَدَ ـِ خَضْدًا الرجلُ: کوئی تر چیز کھانا جیسے گاجر، ککڑی وغیرہ۔ المِخْضَد: بہت کھانے والا۔

۳۔ الخَضَد: پھلوں کی پژمردگی، نباتات کی کمزوری۔

○ خَضَدَ ـِ خَضْدًا ہ: (کانٹوں) کو کاٹ ڈالنا، توڑ ڈالنا۔ خَضَدَ شوكتَهُ: کو مطیع کرنا، کو قابو سے نکلنے نہ دینا، کی طاقت کو قابو میں رکھنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

خضر: اخضر - خضراً: سبز ہونا، ہرا ہونا۔ -الزرع: کھیتی کا سرسبز و شاداب ہونا۔ خضّر الشیءَ: کو سبز کرنا۔ خاضر مُخاضرۃً: کو پکنے سے پہلے سبز پھل فروخت کردینا۔ اَخضر الریُّ النبات: آبیاری کا پودوں کو سبز و شاداب کردینا۔ اِخضرَّ و اِخضوضر: سبز ہونا، ہرا ہونا۔ اِختضر الفاکھۃَ: سبز کچا پھل کھانا۔ -العنبَ: سبز گھاس کاٹنا۔ اُختُضِر: نوجوان مرنا۔ -الشیءُ: چیز کا تازہ لیا جانا۔ الخضِر: سبز، ہرا، ٹہنی، کھیتی (ن): سبز ترکاری، بہت سرسبز و شاداب جگہ۔ الخضّار (ر): نئی سبزی۔ الخضیر: سبز، سبز ترکاری۔ الخُضرۃ جمع خُضَر و خُضَر: ہرا رنگ (ز) سبز ترکاری، نرمی و تازگی۔ کہا جاتا ہے غصنٌ فیہ خُضرۃ: نرم و تازہ ٹہنی۔ خُضرۃ الدِمَن: وہ سبزہ جو کوڑے کرکٹ پر اگ آتا ہے، جس کا ظاہر اچھا اور باطن برا ہو، اس کے لئے یہ بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے۔ الأخضر: سبز، ہرا۔ الأخضران: گھاس اور درخت۔ ھو یجرف الاخضرین: وہ گھاس اور درخت بہا لیجاتا ہے (یہ بات ڈرانے کے لئے کی جاتی ہے)۔ الخضراء جمع خضراوات: الاخضر کا مؤنث: سبز ہری۔ القُبّۃ الخضراء: آسمان۔ الخضّار: سبزی فروش۔ الخُضارۃ: سبز ترکاریاں۔ الأخیضر (ح) سبز مکھی۔ المَخضَرۃ: سرسبز جگہ۔ الخُضاریّ والخُضَریّ جمع خضاریّ (ح): سبزی مائل زرد رنگ کا ایک پرندہ جس کو الأخیل بھی کہتے ہیں۔

۲-خضر - خضراً النخلَ: کھجور کے درخت کو کاٹنا۔

۳-اِخضرَّ اللیلُ: رات کا سیاہ ہونا، تاریک ہونا۔

۴-الخُضرۃ فی الوان الناس: گندم گوئی۔ -فی الوان الابل والخیل: نیلا پن جس میں سیاہی کی ہوئی ہو۔ الخُضار: دودھ جس میں پانی کا بہت حصہ ہو۔ خضراءُ القوم: قوم کا بڑا حصہ۔ الاخاضر: سونا، گوشت، شراب۔ الأخیضر (طب): آنکھ کی ایک بیماری۔

۵-خضرمَ الأذنَ: کان کا کچھ حصہ کاٹ لینا۔ ناقۃٌ مُخضرمۃٌ: وہ اونٹنی جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔

۶-الخِضرِم: بہت پانی والا کنواں، بہت بڑا سمندر، کہا جاتا ہے بحرٌ خِضرِمٌ: بہت پانی والا سمندر۔ رجلٌ خِضرِمٌ: بہت داد و دہش کرنے والا آدمی۔ جمع خضرمون و خَضارِم و خَضارِمۃ والخُضارِم: فیاض کے مطابق جھیلنے والا سردار۔ الخُضرُم: میٹھے اور کھاری کے درمیان کا پانی (ح): گوہ کا بچہ۔

المُخضرَم: غیر مختون وہ سیاہ فام جس کا باپ سفید فام ہو، گھٹیا نسب، لے پالک، جس نے جاہلیت اور اسلام کے زمانے دیکھے ہوں۔ ہم کہتے ہیں شاعرٌ مُخضرَمٌ: وہ شاعر جس نے جاہلیت اور اسلام کے زمانوں میں شاعری کی ہو۔ ماءٌ مُخضرَمٌ: میٹھے اور کھاری پانی کے درمیان کا پانی۔

○خضِر - خضراً: ہرا ہونا، سبز ہونا، سرسبز ہونا، شاداب ہونا، ہرا بھرا ہونا، ترو تازہ ہونا۔ خضّرہ: کو ہرا، سبز کرنا، ہرا بھرا کرنا، سرسبز و شاداب کرنا کو ہرا رنگنا، سبز رنگ دینا۔ خضّر الارضَ: زمین بونا، زمین میں تخم ریزی کرنا، زمین جوتنا، کاشت کرنا زمین میں ہل چلانا، کھیتی باڑی کرنا۔ اِخضرَّ: سبز ہونا یا ہو جانا سرسبز شاداب ہونا یا ہو جانا، ترو تازہ ہونا یا ہو جانا۔ اِخضوضر: بمعنی اِخضرَّ۔ خضِر: ہرا، سبز، سرسبز، شاداب، ترو تازہ، ہرا بھرا۔ لہلہاتا ہوا، کچا، خام، ہریاول، سبزی، ترو تازگی، ہریالی، روئیدگی، ہری بھری فصل۔ الخضِر والخضر: ایک مشہور داستانوی انسان۔ خُضرۃ: سبزی، ساگ پات روئیدگی، ہرا پن، سبز رنگ جمع خُضَر: روئیدگی، بالیدگی، نباتات، سبزی، ہریاول، ترو تازگی، ہریالی، ترکاری، چراگاہ، گھاس والا قطعہ زمین۔ خُضَر: نباتات، ترکاریاں۔ خُضَری: سبزی والا، کنجڑا۔ خُضار: سبزی، ترکاری روئیدگی، ہرا پن، سبز رنگ، سبزیاں، ترکاریاں، جڑی بوٹیاں۔ خضیر: سبز، ہرا۔ خُضارۃ: سبزیاں، ترکاریاں، جڑی بوٹیاں۔ خضّار: سبزی والا، کنجڑا۔ اَخضَر مؤنث خضراء جمع خُضر: سبز، ہرا۔ اَتیٰ علی الأخضر والیابس: ہر چیز تباہ و برباد کردینا کو سخت نقصان پہنچانا۔ الخضراء: ٹیونس کا لقب، آسمان۔ خضراوات: سبزیاں، ترکاریاں، جڑی بوٹیاں۔ الخُضَیراء: بہشت جنت۔ یَخضُور: کلوروفل Chlorophyle۔ خِضرِم جمع خضارم: وافر، بہت سا، کثیر، خوب آبپاشی کیا ہوا، اچھی طرح پانی دیا ہوا، بہت پانی والا، سخی، فیاض، داتا، حاتم، دریا دل، کشادہ دل، آزاد نفس، آزاد خیال، حریت پسند۔ مُخضرَم: جاہلیت اور اسلام میں نبی کریم ﷺ کے معاصرین، خصوصاً شعراء، ایسا بوڑھا شخص جو چند نسلوں یا تاریخی ادوار میں رہا ہو۔

خضع: ۱-خضَع - خُضوعاً و خَضعاً و خُضعاناً: عاجزی کرنا، تواضع کرنا، فروتن ہونا، سرافگندہ ہونا صفت: خاضِع جمع خُضّع و خُضوع جمع خُضُع۔ -الرجلَ: کو ساکن کردینا۔ -لہ: کا تابع و فرمانبردار ہونا۔ خضِع - خضعاً الرجلُ: جھکا ہوا ہونا صفت اَخضَع مؤنث خضعاء۔ خضّعہ: کو عاجز و مطیع کرنا۔ خاضعہ: سے نرم و ملائم گفتگو کرنا۔ اخضَع: عاجزی کرنا۔ -ہ: کو عاجز کرنا کہا جاتا ہے أخضعتنی الیک الحاجۃ: حاجت نے مجھ کو تمہارے سامنے عاجز و فروتن بنادیا۔ -الکِبرُ فلاناً: کو بڑھاپے کا جھکا دینا، خمیدہ، گردن بنادینا۔ تخضّع و اِخضوضع: عاجز بننا، بناوٹی خاکساری ظاہر کرنا۔ اِختضع: عاجز ہونا۔ -الصقرُ: شکرے کا اپنے شکار پر جھپٹنے کے لئے اپنا سر جھکانا۔ الخضَع (مص): گردن کی پیدائشی پستی۔ الخُضَعۃ جمع خُضَع: ہر ایک کا مطیع، اپنے ہمسروں کو مطیع کرنے والا۔ الأخضَع: ذلت پر راضی، دبی ہوئی گردن والا۔ الخضْعۃ و الخَضِعۃ والخَضَعۃ: تلواریں، کوڑے، تلواروں یا کوڑوں کے پڑنے کی آواز۔ کہا جاتا ہے سمعتُ للسیاط خضعۃً: میں نے کوڑوں کے پڑنے کی آواز سنی۔ الخَیضَع من الرجال: ذلت پر راضی ہونے والا آدمی۔

۲-خضَع - خُضوعاً و خَضعاً و خُضعاناً النجمُ: ستارے کا غروب ہونے کے لئے جھکنا یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔

۳-خضّع اللحمَ: گوشت کاٹنا۔

۴-اِختضع فی سیرہ: تیز چلنا۔

۵-الخضیعۃ: جانور کے پیٹ میں سنی جانے والی آواز، سیلاب کی آواز۔ الخَیضَعۃ: لڑائی کی آواز، شور، میدان جنگ اور اس سے اٹھنے والا گرد و غبار۔

○خضَع - خُضوعاً لِ: کے آگے سر تسلیم خم کرنا، کی اطاعت اختیار کرنا، فرمانبرداری کرنا، کے آگے سپر انداز ہونا، ہتھیار ڈال دینا، کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کے سامنے خاکساری کرنا، کا (حکم) ماننا (حکم کی) تعمیل کرنا، کی فرمانبرداری کرنا۔ -ل اور الیٰ: (قانون وغیرہ) کا تابع ہونا کے زیر کنٹرول ہونا۔ خضّع و اَخضَعہ: کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، زیر نگین کرنا، قابو میں کرنا، ذلیل کرنا۔ -ہ ل / ہ ل: کسی کو کے حوالے کرنا، کسی چیز کو کے پیش کرنا، کو کا محکوم بنانا کو کے زیر نگین کرنا۔ خُضوع: فرمانبرداری، اطاعت، تعمیل ارشاد، ذلت، پستی، عاجزی، عجز و انکسار، زیر ہونا۔ خضوع جمع خُضّع: فرمانبردار، اطاعت شعار، عاجز، خاکسار، منکسر المزاج۔ اِخضاع: زیر کرنا، تسخیر، محکوم بنانا، تابعداری، محکومی۔ خاضع جمع خُضّع و

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خُضعَان و خِضعان: اطاعت گزار، فرماں بردار، فروتن، خاکسار، منکسر المزاج، متحمل المزاج، لچک دار، نرم، ملائم، قسم کھانے والا، جھکنے والا، اثر پذیر، اطاعت پذیر، مطیع ۔۔لِ: کا مستوجب، کا امکان رکھنے والا، کی شرط پر، بشرط، بہ امید۔

خضف: خَضَفَ ۔ خَضَافًا و خَضفًا: گوز کرنا صفت خِضیف و خَضُوف و خَضَّاف۔

خضل: ا۔خَضِلَ ۔ خَضَلًا و أخضَلَ و اخضَلَّ و اِخضَوضَلَ: تر ہونا، نمناک ہونا۔صفت خَضِل و خَاضِل خواضِل۔ خضَّلَ و أخضَلَ الشیءَ: کوتر کرنا، نمناک کرنا۔اِفضَال و اِخضَالَ: تر ہو… غمناک ہونا۔۔الشجرُ: درخت کا بہت ٹہنیوں… پتوں والا ہونا۔الخَضِل: تر، گیلا، نم، مرطوب… جاتا ہے عیشٌ خَضِلٌ: عمدہ… شِواءٌ خَضِلٌ: اچھی طرح بھنا ہوا… سنانٌ خَضِلٌ: خون سے تر نیزہ۔الخُضلَة: ترو تازگی، تری، نمی، رطوبت، آسودگی، زندگی کا آرام، نازک عورت۔یوم خَضلةٍ: خوشی وراحت کا دن۔
الخَضِیلَة: سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا باغ (پانی کے قریب ہونے وجہ سے)۔المُخضَل و المُخضِل: آسودہ زندگی والا۔

۲۔الخَضل (واحد خَضَلَة) و الخَضَل: صاف موتی، ایک قسم کے مہرے۔

○خَضِلَ ۔ خَضَلًا: نم، تر، گیلا یا مرطوب ہونا، یا ہو جانا۔خَضَّلَ و اَخضَلَ ہ: کوتر کرنا، گیلا کرنا، نم کرنا، مرطوب کرنا۔اِخضَلَّ: نم، تر، گیلا یا مرطوب ہونا یا ہو جانا۔خَضِل: مرطوب، نم، تر، گیلا، رسیلا، رس دار، رس بھرا، شیرے دار، شاداب، پرلطف، فرحت بخش، خوش کن، مسرور، شادان، خوش، خوش مزاج، زندہ دل، خوش دل۔

خضم: ا۔خَضَمَ ۔ خَضمًا و اِختَضَمَ الشیءَ: کو کاٹنا۔الخِضَم: تیز کرنے کی سلی۔۔من السیوف: کاٹنے والی تلوار۔

۲۔خَضِمَ ۔ و خَضَمَ ۔ خَضمًا الطعامَ: کو کھانا پچھلی داڑھوں سے کھانا۔الخُضَام و الخُضَامَة: پچھلی داڑھوں سے کھائی جانے والی چیز۔الخَضِیمَة: سبزہ نباتات، بہت نباتات والی زمین۔

۳۔خَضَمَ ۔ خَضمًا و اِختَضَمَ له من ماله: کو اپنے مال میں سے دینا۔اِختَضَمَ له فی العطاء: کو زیادہ دینا، زیادہ بخشنا، عطا کرنا۔الخِضَمّ: بڑا سمندر، سردار، بڑا، فیاض سخی (عورت کی صفت میں یہ نہیں آتا)، بڑا گروہ۔

۴۔المُخَضَّم و المُخَضَّم: آسودہ زندگی گزارنے والا۔الخُضَمَّة: درمیان، چیز کا بڑا حصہ۔

○خَضَمَ ۔ خَضمًا ہ: کوئی چیز پورے منہ سے چبانا، چبا کر کھانا، کو دانتوں سے چیر ڈالنا۔خِضَمّ: وسیع (سمندر) سمندر، بڑا سمندر، بحر۔

خط: ا۔خَطَّ ۔ خَطًّا بالقلم: قلم سے لکھنا۔۔الشیءَ: … سے لکھنا۔۔علی الشیءِ: پر نشان لگانا…۔۔ت الریاحُ الرملَ: ہوا کا ریت پر…۔۔فی الارض: زمین پر لکیر کھینچنا۔کہا جا… حاراہ فماخط غبارہ: اس نے اس کا… گرد کو بھی نہیں پہنچا۔فلانٌ یخطّ فی الارض: فلاں شخص اپنے معاملہ میں سوچ بچار کر رہا ہے۔۔الخطّةَ لنفسه: اس نے زمین کا ٹکڑا نشان لگا کر اپنے لئے مخصوص کر لیا۔خَطَّطَ: لکیریں کھینچنا۔۔الخطوطَ: نقوش بنانا۔البلادَ: ملک کے حدود مقرر کرنا۔اِختَطَّ الوجهُ اوغیرہ: چہرے وغیرہ پر جھریاں پڑ جانا۔۔الارضَ او الدارَ: زمین یا گھر کی حد بندی کرنا۔خِطَّةً: زمین کا ٹکڑا اپنے لئے مخصوص کرنا، معین کرنا اور اس پر علامت لگانا۔الخَطَّاط جمع خَطَّاط: جادوگر۔الخَطّ: راستہ، سڑک، شاہراہ۔الخَطّ جمع خُطُوط: تحریر، کتابت، لمبا راستہ۔محلّہ۔(ہ): لکیر، خط، سیدھی لکیر کے معنی میں بکثرت مستعمل ہے۔لکیر کی مختلف قسمیں ہیں۔جیسے: خط مستقیم، خط نصف مستقیم خط منحنی، خط منکسر، خط منحنی، خط معلّق، خط مفتوح، خط منکسر محدب، خط منکسر مقعر۔خط الاستواء او الاعتدال (فلک): وہ خیالی اور موہوم خط جو زمین کو دو برابر کے شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اسے خط الاستواء السماوی یا الفلک المستقیم یا معدل النہار بھی کہتے ہیں۔خطّ المسری (اع): آتشیں اسلحہ کے دہانے سے چلنے سے نشانہ تک پہنچنے تک چلنے کی گولیوں یا گولوں وغیرہ کی بنائی ہوئی لکیر۔خط یا دائرہ نصف النہار یا خط زوال یا خط الهاجرة: خط نصف النہار، (سورج یا ستارے کا) نقطہ عروج۔خُطوط الکفّ: ہاتھ کی لکیریں۔الخِطّ و الخِطَّة جمع خِطَط: آباد کاری کی سب سے پہلی مقبوضہ زمین زمین کا وہ ٹکڑا جو کوئی اپنے واسطے مخصوص کرے۔الخُطَّة جمع خُطَط: کام۔(کہا جاتا ہے تلك خُطَّةٌ لیست من بالتی: یہ کام میری شان کا نہیں۔فی راسه خُطَّة: اس کے دماغ میں کوئی… مشکل معاملہ جس کا کوئی حل نہ سوجھے۔کہا جاتا ہے فلانٌ یبنی خُطَطَ المکارم: فلاں شخص کرم و بزرگی کے مدارج کی بنیاد قائم کرتا ہے۔المِخَطّ: کپڑے پر نشان کرنے کے لئے جلاہے کی لکڑی۔الخطوط: زمین پر پاؤں کے نشان چھوڑنے والا، عورت کے ابرو رنگنے کا طلا۔المِخطاط: بہت لکھنے والا، خوش نویس۔المُخَطَّط: دھاری دار۔

۲۔خَطَّ ۔ خَطَّ الغلامُ: لڑکے کے چہرے پر سبزہ آنا۔۔عِذارُہ: کے رخساروں پر بال نکلنا۔اِختَطَّ الغلامُ: لڑکے کے چہرے پر سبزہ اگنا، آنا۔

۳۔خَطَّ ۔ خَطَّ القبرَ: قبر کھودنا۔

۴۔خَطَّ ۔ خَطَّ الطعامَ و فی الطعام: کھانا تھوڑا سا کھانا۔

۵۔خَطَّ ۔ خَطًّا فی نومه: نیند میں خراٹے لینا۔

۶۔الخُطّ و الخَطّ: محلّہ۔الخُطَّة جمع خُطَط: جہالت، خصلت۔الخَطِّی جمع خَطِّیَّة: "خط" مقام کا نیزہ۔خط بحرین کی بندرگاہ پر واقع ہے، جہاں نیزے بکتے ہیں۔المُخَطَّط: خوبصورت۔

○خَطَّ ۔ خَطًّا علی: پر لکیر لگانا۔۔ہ: کی تصویر کھینچنا، کا خاکہ کھینچنا، کا خاکہ بنانا، کا خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن تیار کرنا۔۔ہ: کچھ لکھنا، پر کندہ کاری کرنا، پر کندہ کرنا، کھودنا، نقش کرنا، پر گہرے نقوش چھوڑنا۔۔ہ ل: کے لئے مختصر طور پر یا مختصراً کچھ بیان کرنا، نشان لگانا، کا خاکہ کھینچنا، کچھ مقرر کرنا۔خَطَّ خَطًّا (سطراً): لکیر کھینچنا۔خَطَّهُ الشیبُ: کے بال سفید ہو جانا۔خَطَّطَ: لکیریں کھینچنا۔۔ہ: چٹی سے لکیر کھینچنا، میں لیک ڈالنا، مینڈھ بنانا، پر لکیریں یا دھاریاں ڈالنا، کو دھاریدار بنانا، پنسل سے (بھویں) بنانا، کو معین کرنا، کی تخصیص کرنا، کو مخصوص کرنا، ظاہر کرنا۔زمین وغیرہ) کی حد بندی کرنا، حد باندھنا، حد مقرر کرنا، سرحد مقرر کرنا، کا خاکہ بنانا، نقشہ کھینچنا، کو کھمبوں کی باڑ لگا کر الگ کرنا، کی مساحت کرنا، (سڑکوں) کا منصوبہ بنانا، کی تفصیلات تیار کرنا۔اختطّ ہ: (راستہ) مقرر کرنا، کا خاکہ کھینچنا، کی ٹھیک جگہ ظاہر کرنا، کی حد بندی کرنا، حد باندھنا، حد مقرر کرنا، سرحد مقرر کرنا، (شہر کی تعمیر کا) منصوبہ بنانا، کی منصوبہ بندی کرنا (منصوبہ) بنانا، کا خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن تیار کرنا، کی تدبیر کرنا، کا منصوبہ بنانا، کے لئے منصوبے بنانا۔خَطّ جمع خُطُوط: خط، لکیر، لائن جنبش، دھاری، (ریلوے) لائن، محاذ، محاذ جنگ، لیک، لکیر، باہن، ہلائی، (باہن کی) مینڈھ، تحریر، لکھائی، دستی تحریر، کتابت، خوش خطی، خوش نویسی،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

خط ۔ خط أرضي: گراؤنڈ وائر۔ الخط الإسْفِيني: خط
میخی،خط پیکانی۔ الخطوط الأمامية: اگلی صفیں،
جنگی صفیں۔ خط تليفوني: ٹیلیفون لائن۔ خطوط
جَوِّيَة: ہوائی راستے،ادارہ طیران(air lines):
خط سِكَّةِ الحديد: (ریلوے)لائن،پٹری۔
خط الزوال و خط نصف النهار: خط نصف
النہار،(سورج یا ستارے کا) نقطۂ عروج۔ الخط
المسماری: خط میخی،خط پیکانی۔ خط الاستواء:
خطِ استواء۔ خط الطُول یا خط طُولِي: طول بلد کا
دائرہ،طول البلد۔ خط العَرْض یا خط عَرْضِي:
عرض البلد،خطِ عرض البلد۔ خط تقسيم المياه:
دو دریائی نظاموں کو جدا کرنے والا پہاڑی فاصل، پن
دھارا، فاصل آب۔ خطُّ القُوَّةِ الكَهْرَبَائِية:
برقی طاقت کی لائنیں۔ خط الهاجرة: خطِ نصف
النہار۔ خَرَجَ عَنِ الخطِّ: (ٹرین کا) پٹری سے اتر
جانا۔ عَلَى خط مستقيم: سیدھی لائن میں،اک
دم،اسی وقت،فوراً،ترت،بلاتوقف،قطعی طور پر،تمام
تر،کھلم کھلا،بے حد،سربسر،پورا پورا،بالکل۔ على
طول الخط: ہر مرحلہ پر۔ خُطّ: محلہ،شہر کا ایک
حصہ۔ خَطِّي: ہاتھ کا لکھا ہوا،نیزہ،سیدھی لکیریں،
سیدھی لکیروں کا۔ خُطَّة: معاملہ،حالت،عہدہ،کام،
مقام۔ خِطَّة و خُطَّة جمع خِطَط و خُطَط:
قطعہ زمین جو مکان کی تعمیر کے لئے حاصل کیا گیا ہو،
قطعہ،ٹکڑا (غیر منقولہ جائیداد کا)۔ ضلع، غیر منقولہ
جائیداد کا قطعہ کا نقشہ یا خاکہ یا منصوبہ، ترتیب،
منصوبہ، نقشہ، ڈیزائن، ادارہ، طریق عمل، پالیسی،
قاعدہ،اصول اخلاق،راستہ،راہ،رہنما اصول خُطَّة
العمل: عمل کا منصوبہ کام کا منصوبہ۔ طِبْقًا لِخُطَّةٍ
مَرْسُومَة: منصوبے کے مطابق۔ خَطَّاط جمع
خَطَّاطُون: خوش نویس،نقش یا چھوڑنے والا۔ فشك
خَطَّاط یا قَذِيفَة خَطَّاطَة: گولہ یا گولی جس کا
راستہ دھوئیں کی لکیر سے جو پیچھے چھوڑ جاتی ہے نظر آتا
ہے۔ رسم تخطيطي: پہلا خاکہ،ڈیزائن،ابتدائی
مسودہ۔ مَخْطُوط: ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ۔ مَخْطُوطَة
جمع مخطوطات: مسودہ۔ مُخَطَّط: دھاریدار،
چٹی سے کھینچی ہوئی (لکیر)، لیک ڈلا ہوا، تیار کیا ہوا
(خاکہ،نقشہ،ڈیزائن) نشان لگا ہوا، الگ کیا ہوا،
الگ کیا ہوا،مخصوص کیا ہوا،معین کیا ہوا۔ منصوبہ بندی
کیا ہوا،رہنمائی کیا ہوا،کنٹرول کیا ہوا جمع مخططات:
خاکہ،ڈیزائن،نقشہ،منصوبہ،(شہر کا) نقشہ۔
خطی: ا۔ خَطِيَ ـَ خَطًا: غلطی کرنا۔ أَخْطَأَ۔
إِخْطاءً و خَاطِئَةً الرامي الغرض: تیرانداز کا نشانہ خطا
کرنا تیرانداز کا تیر نشانہ پر نہ لگنا۔ في عمله: کام
میں صحیح راستہ سے ہٹ جانا۔ الطريق: راستہ سے
بھٹک جانا تَخَطَّأَ له في المسئلة وبها: کی غلطی
ڈھونڈنے کے درپے ہونا۔ و تَخَاطَأَ السهمُ
الرمية: تیر کا نشانہ سے آگے نکل جانا،نشانہ پر نہ لگنا،
نشانہ خطا کرنا۔ الخَطَأ و الخَطَاء: غلطی۔ الخَطَأ
جمع أَخْطَاء: غلطی۔ المُطْلَق (ع ا): اصلی
قیمت اور لگ بھگ قیمت کا فرق۔ النِّسْبِيّ: اصلی
قیمت سے اصلی قیمت اور لگ بھگ قیمت کے فرق کی
نسبت۔ حساب الأَخْطاء: اصلی قیمتوں کی لگ بھگ
قیمتوں میں منتقلی کی صورت میں ہونے والی غلطیوں پر
بحث کی قسم۔
۲۔ خَطِئَ ـَ خَطَأً في دِينِهِ: دین میں قصداً یا بلاقصد غلط
راستہ پر چلنا۔ خِطْأً و خِطْأَةً: گناہ کرنا،قصور کرنا۔
صفت: خاطِئ جمع خَطَأ و خِطَأَة: گناہ کرنا،
قصور کرنا صفت خاطِئ جمع خطأة مونث خاطِئَة
جمع خَطَأَة م خاطِئَة ج خواطِئ۔ خَطَّأَ
تخطِيئًا و تَخْطِئَةً هُ: کی غلطی کی طرف نسبت کرنا
کو کہنا کہ تو نے غلطی کی ہے۔ أَخْطَأَ إِخْطَاءً و
خاطِئَةً: غلطی کرنا۔ الرجلَ: کو غلطی میں ڈالنا۔
تَخَطَّأَ و تَخَاطَأَ: غلطی کرنا۔ ہ: کو غلطی میں ڈالنا۔
الخِطْء: گناہ۔ الخِطْأُ الخَطَأ و الخَطَاء: گناہ،
بعض کے نزدیک غیر ارادی گناہ۔ الخَطَّاء: بہت
غلطی کرنے والا۔ الخَطِيئة جمع خَطَايا و
خَطِيئات: گناہ،بعض کے نزدیک ارادی گناہ۔
۳۔ خَطَأَ ـَ خَطْأً تِ القِدرُ بزبدها: ہانڈی کا جھاگ
پھینکنا۔
○ خَطِئَ ـَ خَطَأ: غلطی پر ہونا،غلطی کرنا،غلطی کا
ارتکاب کرنا،گناہ کرنا۔ خَطَّأَهُ: پر تقصیر،جرم بدعنوانی،
خلاف ورزی یا جارحانہ عمل کا الزام لگانا یا سے متہم کرنا،
کو ملزم ٹھہرانا، پر الزام لگانا، الزام میں ماخوذ کرنا، کو
قصور وار یا مجرم قرار دینا، کو بھول چوک غلطی،
فروگزاشت یا سہو سے متہم کرنا،پر جرمانہ کرنا۔ أَخْطَأَ
في: میں غلطی پر ہونا،غلط ہونا،فروگزاشت،بھول
چوک کا ارتکاب کرنا، کے بارے میں غلط ہونا،غلطی
کرنا۔ ہ: پر گولی وغیرہ کا نہ لگ سکنا۔ ھ: نشانہ پر
نہ لگ سکنا (گولی وغیرہ کا)۔ ہ: کے ذہن سے نکل
جانا۔ أَخْطَأَ فَأْلُهُ: کی توقعات پوری نہ ہونا،کا کسی
جگہ غلطی پر ہونا،کا کسی جگہ غلطی کر دینا۔ أَخْطَأَهُ الشيءُ:
کسی چیز کو نہ رکھنا،کسی چیز سے محروم ہونا،قاصر ہونا،کسی
چیز کا محتاج ہونا۔ أَخْطَأَهُ التوفيق: وہ ناکام ہو گیا۔
أَخْطَأَ في استنتاجه: اس نے غلط نتائج اخذ کر
لئے۔ أَخْطَأَ بَيْنَ الشيئين: اس نے دو چیزوں میں
گڈمڈ کر دی۔ وہ غلطی سے ایک چیز دوسری سمجھ بیٹھا۔
خِطْء: لغزش،فروگزاشت ذرا سی غلطی،بھول،سہو،
غلطی،خطا،قصور،جرم خلاف ورزی،گناہ۔ خَطَأ
و خَطَاء: بھول چوک،سہو فروگزاشت،غلطی،نقص،
نادرستی، جرم، تقصیر، خطا، بدعنوانی، خلاف ورزی،
جارحانہ عمل،کوتاہی،غفلت،غلط کام۔ خَطَأً: غلطی
سے،غلط طور پر من الخطاء ان: یہ غلط ہے کہ،یہ غلط
ہوگا کہ۔ اصلاح الخطاء: غلطی نامہ،صحت
نامہ،فہرست جو کتاب کے آخر میں غلطیوں کے صحت
نامہ کے طور پر لگائی جاتی ہے۔ قتلُ الخطا: اتفاقی
قتل۔ خَطِيئَة جمع خطيئات و خَطَايا: غلطی،
فاش غلطی،لغزش،بھول چوک،سہو،قصور، ظلم،جرم،
بدعنوانی، خلاف ورزی، جارحانہ عمل، گناہ، جرمانہ،
خاطِئ: غلط،غیر صحیح نادرست،غلطی پر،غلط فہمی پر مبنی،
جمع خُطَاة مؤنث خاطِئَة جمع خواطِئ: گناہ
گار، مُخْطِئ: غلطی پر،غلط،غیر صحیح،نادرست۔
خطب: ا۔ خَطَبَ ـُ خُطْبَةً و خُطْبًا و خَطَابَةً: وعظ
کہنا حاضرین کے روبرو خطبہ پڑھنا۔ کہا جاتا ہے:
خطب القومَ و في القوم: اس نے قوم کو خطاب
کیا،ان کے سامنے تقریر کی۔ خَطُبَ ـُ خَطَابَةً:
واعظ ہونا،خطیب ہونا،مقرر ہونا۔ خاطَبَ خِطَابًا و
مُخَاطَبَةً هُ: باہم گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے: خاطَبَهُ في
فلان: اس نے اس سے فلاں شخص کے متعلق بات
چیت کی۔ تَخَاطَبَا: باہم گفتگو کرنا،بات چیت کرنا۔
إِخْتَطَبَ على المنبر: منبر پر خطبہ دینا۔ الخِطَاب:
گفتگو (فصلُ الخطاب: خطیب کا الحمدللہ کے
بعد ("اما بعد" کہنا) فصاحت۔ الخُطْبَة: تقریر،
وعظ،گفتگو۔ الخَطِيب جمع خُطَبَاء: خطبہ پڑھنے
والا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ خطيبٌ: خوش بیان واعظ۔
الأَخْطَب: خطابت کا اسم تفضیل جس طرح کتابت
سے اکتب اور شعر سے اشعر۔ کہا جاتا ہے: كان
أَخْطَبَ اهلِ زمانِه: وہ اپنے زمانہ کا بہترین مقرر
اور واعظ تھا۔ اسی سے ہے: أَخْطَبُ سحبان وائل:
سحبان وائل سے زیادہ خطیب۔ سحبان قبیلہ باہلہ کا
نہایت بلند پایہ فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب
تھا۔ الخَطَّاب: بہت وعظ اور تقریر کرنے والا۔
الخَطَّابَة: بہت تقریر کرنے والا یا کرنے والی۔
۲۔ خَطَبَ ـُ خَطْبًا و خِطْبَةً و خِطِّيبَى الفَتَاةَ: لڑکی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سے منگنی کرنا صفت: خاطب۔ کہا جاتا ہے۔ خطب
الفتاۃ علی فلان: اس نے لڑکی کی فلاں سے منگنی
کی۔اس نے لڑکی کو فلاں کی منگیتر بنایا۔ اِختَطَبَ
الفتاۃَ: لڑکی سے منگنی کرنا۔ —القوم فلانًا: قوم کا
اپنی کسی لڑکی سے کسی شخص کی منگنی کرنا۔ الخاطِب
جمع خُطَبَاء (فا) شادی کا امیدوار، رشتہ کرانے والا
کہا جاتا ہے: ارسلتہ خاطِبًا فتزوج: یہ مثل اس
شخص کے لئے بولی جاتی ہے جسے کسی کام کے سلسلہ
میں بھیجا جائے اور وہ اپنا کام سر انجام دے
ڈالے۔ خاطبُ الدنیا: دنیا کا طالب اور دنیا میں
منہمک۔ الخِطب جمع اخطاب: منگنی کرنے والا۔
عورت جس سے منگنی کی جائے کہا جاتا ہے۔ ھو خِطبُھا
وھی خِطبُہُ: وہ مرد اس عورت کا منگیتر ہے اور وہ
عورت اس مرد کی منگیتر ہے۔ الخِطبَۃ (مص):
عورت سے شادی کا خواستگار ہونا، وہ عورت جس سے
منگنی کی گئی ہو، مرد کی طرف سے منگنی کے لئے پیش کیا
جانے والا تحفہ۔ الخَطِیب جمع خُطَبَاء: منگنی
کرنے والا۔ الخِطِّیب جمع خِطِّیبُون: عورت کو
پیغام نکاح دینے والا، عورت سے منگنی کرنے والا۔
الخَطَّاب: منگنی کرانے والا۔ الخِطِّیبَی: عورت
جس کو کوئی پیغام نکاح دے۔ منگیتر۔

۳۔ خَطِبَ ـَ خَطَبًا الشیءُ: تیرہ مائل سرخ زرد ہونا۔
دھندلے رنگ کا ہونا۔ اَخطَبَت الحنطۃ:
گندم کا پکنا۔ الخُطبَۃ: دھندلا رنگ یا تیرہ رنگ
جس میں سرخی زردی ملی ہوئی ہو۔ الأَخطَب: تیرہ
مائل سرخ زرد رنگ کا۔ —من الحنظل: سبز
دھاریوں والا اندرائن۔

۴۔ اَخطَبَ الصیدُ فلانًا: شکار کا کسی کی زد میں آنا۔

۵۔ الخَطب جمع خُطُوب: حالت (کہا جاتا ہے:
ماخَطبُک؟ تمہاری کیا حالت ہے اور تم کو اس پر کس
نے اکسایا) معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ عام طور پر برے اور
ناپسندید معاملہ کے لئے مستعمل ہے۔ خُطبَۃ
الکتاب: کتاب کا دیباچہ۔ فصل الخطاب: فیصلہ جو
دلیل یا قسم کے ساتھ دیا جائے۔ الأَخطَب: شکرا۔
الخطّابیَّۃ: رافضی امام ابی الخطاب کے پیروکار جنہیں
اس کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے مخالفوں کے خلاف
جھوٹی گواہی دیا کریں۔

○ خَطَبَ ـُ خُطبَۃً و خَطَابَۃً: عوام کے روبرو
تقریر کرنا، خطاب کرنا، تقریر کرنا۔ فی الناس
/الناسَ: لوگوں کو پند و نصیحت کرنا، وعظ کرنا۔ خطبہ
دینا۔ خَطَبَ ـُ خَطبًا و خِطبَۃً ھا: مرد کا لڑکی کو
شادی کا پیغام دینا۔ —ھالِ: (رشتہ کرانے والے) کا
لڑکی کا کے لئے رشتہ مانگنا۔ —بنتہ ل/علی: اپنی
بیٹی کی سے منگنی کرنا۔ خطب وُدَّھا اور خطب
مُودَّتَھا: لڑکی کی اس سے شادی کے لئے محبت جیتنے
کی کوشش کرنا۔ خاطَبَ ہ: سے خطاب کرنا، مخاطب
ہونا، سے بات کرنا، گفتگو کرنا، زبانی یا لکھ کر کسی کی
طرف توجہ کرنا۔ خاطبہ بالتلیفون: کو ٹیلی فون کرنا۔
خاطبہ بالکاف: کو اس کے ذاتی نام کی بنیاد پر
لکھنا۔ تخاطَبَا: باہم گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو لکھنا،
ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا۔ اختطب: لڑکی
سے شادی کا طالب ہونا۔ خَطْب جمع خُطُوب:
معاملہ، کاروبار، کام، صورت حال، حالات افسوسناک
حادثہ، سوئے اتفاق، بدقسمتی، فکر، تشویش پریشانی۔ ما
خَطْبُکَ؟: تم کیا چاہتے ہو، پریشانی کیا ہے؟، معاملہ
کیا ہے؟۔ ما خَطبُہ فی: اس کا اس سے کیا واسطہ
ہے، کیا تعلق ہے؟ ماخَطبُ ذلک: یہ سب کچھ کس
کے بارے میں ہے؟ خِطبَۃ: شادی کی نیت سے
معاشقہ، منگنی، نسبت، سگائی۔ خُطبَۃ جمع خُطَب:
عوام سے خطاب، تقریر، لیکچر، (عالمانہ) خطبہ،
وعظ، خصوصاً مسلمانوں کا جمعہ کو خطبہ۔ خُطبَۃُ الافتتاح:
افتتاحی تقریر۔ خِطاب جمع خطابات و اَخطِبَۃ:
عوامی خطاب، تقریر، خط، چٹھی، نوٹ، پیغام۔ خطابُ
ترحیب: خطبہ استقبالیہ۔ خطب العرش: شاہی
تقریر۔ خطابٌ مُستعجل: فوری ترسیل طلب
خط۔ خطابُ تَقدِمَۃ: تعارفی خط۔ خطابات ذات
القیمۃ المقرَّرۃ: رجسٹرڈ یا بیمہ شدہ چٹھیاں۔ فصل
الخطاب: اختتام، خاتمہ، فیصلہ، واضح فیصلہ، واضح
حکم بنی و بینک فصلُ الخطاب: میرے اور تمہارے
درمیان تعلق ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ خِطابی:
خطیبانہ، جذباتی، تقریری، لیکچر کا۔ خَطِیب جمع
خُطَبَاء: (عوامی) مقرر، مقرر، لیکچرار، واعظ، خطیب
(لڑکی سے) شادی کی درخواست کرنے والا، منگیتر
(مرد) خَطِیبَۃ: منگیتر (لڑکی) خَطَابَۃ: فصاحت،
خطابت، بلاغت، وعظ گوئی، تقریر کا فن۔ خِطابۃ:
مرضع بیان، تقریر، لیکچر، خطبہ۔ خُطُوبَۃ: شادی کے
لئے معاشقہ، منگنی، سگائی، نسبت۔ مُخاطَبَۃ جمع
مُخاطَبات: خطاب، عوامی خطاب، تقریر، باضابطہ
اعلان، گفتگو، بات چیت، مشورہ، مشاورت، صلاح،
گفت و شنید، مذاکرات۔ مُخاطَبَۃ تلیفونیۃ: ٹیلی
فون پر گفتگو، ٹیلی فون پر بلاوا۔ تَخاطُب: بات
چیت، گفتگو [illegible] ٹیلی فون [illegible] وغیرہ کے ذریعہ
رابطہ، میل جول۔ لغۃ التخاطُب: عام بول چال کی
زبان۔ خاطِب جمع خُطَبَاء و خُطَّاب: شادی کا
امیدوار، رشتہ کرانے والا خاطِبَۃ جمع خُطَّاب:
رشتہ کرانے والی۔ مَخطُوبَۃ: منگیتر (لڑکی)
مُخاطَب: مخاطب، جس سے گفتگو کی جائے، جسے
مخاطب کیا گیا ہو۔

خطر: ۱۔ خَطَرَ ـِ خَطَرانًا و خَطِیرًا فی مشیتہ:
ہاتھ اوپر نیچے کرتے ہوئے چلنا۔ —بیدہ: ہاتھ آگے
پیچھے کرتے ہوئے چلنا۔ —خَطْرًا و خَطَرانًا و
خَطِیرًا الجملُ بذنبہ: اونٹ کا اپنی دم کو بار بار اٹھا
کر اپنی رانوں پر مارنا۔ الخاطِر: فا۔ الخَاطِر کا اسم
مبالغہ۔ الخَطِر: اترا کر چلنے والا۔

۲۔ خَطَرَ ـِ خَطَرانًا و خَطِیرًا الرمحُ: نیزہ کا ہلنا۔
بسیفہ اور رمحہ: تلوار یا نیزہ کو فخر سے ہلانا۔
الخَطَّار: نیزہ مارنے والا، نیزہ، گوپھن۔

۳۔ خَطَرَ ـُ خُطُورًا الامرُلہُ: کو کوئی بات سوجھنا۔ الامُر
ببالہ و علی و فی بالہ: کو کوئی بات یاد آنا۔ —ت
الحوادثُ: حوادث کا واقعہ ہونا، پیش آنا۔ اَخطَرَ
الشیءَ فی او علی او ببالہ: کو کوئی بات یاد دلانا۔
الخاطِر جمع خَواطِر: دل میں آنے والی بات یا
تدبیر، خیال، کبھی اس کا اطلاق دل اور نفس پر بھی مجازاً
ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے: وَقَعَ فی خاطری:
میرے دل میں آیا۔ جاشَ الشعرُ فی خاطری:
میرے دل میں شعر کی آمد ہوئی۔ فلانٌ سریع
الخاطِر: فلاں شخص تیز طبیعت ہے۔

۴۔ خَطُرَ ـُ خَطَرًا و خُطُورَۃً: بلند مقام ہونا، ذی قدر
ہونا۔ صفت: خَطِیر جمع خُطُر۔ أَخطَرَہٗ: قدر و
منزلت میں کسی جیسا ہونا۔ الخَطَر جمع اَخطار:
شرف، بلند قدری، رتبہ، مثل، ہم پلہ۔ (اس کا استعمال
ذی مرتبہ چیز میں ہی ہوتا ہے جیسے: فی ظلّ عیش
خطیرٍ مالہٗ خَطَر: بے مثل بلند قدر زندگی کے
سائے میں۔ الخِطر: بلند مرتبہ، عالی قدر۔ الخَطِیر:
عالی قدر۔ ذی قدر چیز کا مثل (کہا جاتا ہے لیس لہ
خَطِیر: اس کا کوئی مثل نہیں) شریف۔

۵۔ خاطَرَ مُخاطَرَۃً بنفسہ: اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا،
جان جوکھوں میں ڈالنا۔ اَخطَرَ المریضُ: بیمار کا
خطرہ میں ہونا صفت: مُخطِر۔ الخَطَر جمع
اَخطَار: ہلاکت کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے: رکبوا
الأَخطار: وہ خطروں میں پڑے۔ المَخاطِر:
خطرے۔ (اس کا مفرد نہیں ہے)۔

۶۔ خاطَرَ مُخاطَرَۃً ہ علی کذا: سے پر شرط

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لگانا۔اَخْطَرَ المالَ: مال کوشرط باندھنے والوں کے درمیان رکھنا۔تَخَاطَرَ القومُ علی الشیء: پرشرط باندھنا۔الخَطَر جمع خِطار و جج خُطر: گھوڑوں میں لگائی جانے والی شرط۔

۷۔تَخَطَّرَی: پھاندنا،تجاوز کرنا۔کہا جاتا ہے تَخَطَّرَانی شر فلان فلاں شخص کا شر مجھ سے تجاوز کر گیا۔

۸۔الخطر ایک بڑا پیمانہ۔و الخِطْر: اونٹوں کے سرینوں پر مینگنیوں کا جما ہوا میل،نظر کے سامنے آنے والا بادل۔الخِطر جمع اَخطار: بہت پانی والا دودھ،بہت سے اونٹ،شاخ،ٹہنی۔واحد خِطْرَة (ن) خضاب کا پودہ۔الخَطْرَة: ایک مرتبہ،ایک بار،ایک دفعہ۔آپ کہتے ہیں مالقیتہ الاخَطْرَةَ میں اس سے صرف ایک بار ملا۔الخَطِیر: مہار،رسی،ترمرے،رات کی تاریکی،دھمکی،ڈانٹ،شادمانی۔الخَطَّار عطار،زیتوں کا خوشبودار تیل الخَطَّارَة: اونٹوں کا باڑہ۔

۹۔خَطْرَف و تَخَطْرَفَ: تیز چلنا صفت خِطْرِیف و خُطْرُف۔خَطْرَفَهُ بالسیف کو تلوار سے مارنا۔

○خَطَرَ ِ خَطَرانًا ب: کو جھلانا،گھمانا،لہرانا،لہلہانا،حرکت دینا۔ -: ہلنا،کانپنا،لرزنا،تھرانا،مرتعش ہونا،اترا کر چلنا،اکڑ کر چلنا،تکبر سے چلنا۔ ُ ِ خُطُورًا ل: کے دل میں آنا،کو سوجھنا خطر الامرُ علی باله: معاملہ کسی کے دل میں آنا،کا کو خیال آنا،کو یاد کرنا۔ خطر الامرُ فی باله یا بباله یا علی قلبه: کو یاد کرنا۔خَطَرَ لهُ خاطرٌ: کو خیال ہونا۔امرٌ لم یَخْطِرُ ببالِه۔ غیر متوقع معاملہ،بات جو کسی کے خواب میں بھی نہ آئے۔خَطُرَ ُ خُطُورَةً: وزن دار ہونا،بوجھل ہونا،اہم ہونا معنی خیز ہونا،سنگین ہونا،تشویشناک ہونا،قابل توجہ ہونا،بہت اہم ہونا،خطرناک ہونا،سخت خطرے کا ہونا جوکھوں کا ہونا،خطرے والا ہونا،جوکھوں والا ہونا۔خَاطَرَ ب/ بنفسه: کو خطرے میں ڈالنا،اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا،کا امکان قبول کرنا،کا خطرہ مول لینا،اپنی جان کا خطرہ مول لینا،کو داؤ پر لگانا،اپنی جان کو داؤ پر لگانا۔ ہ علی: سے پر شرط لگانا،باندھنا،بدنا۔اَخْطَرَه: کو مطلع کرنا،آگاہ کرنا،اطلاع دینا۔ ہ ب: کو کے بارے میں آگاہ کرنا۔ ہ: کو متنبہ کرنا،خبردار کرنا۔تَخَطَّرَ: تکبر سے چلنا،لپکتے ہوئے ڈگ بھرنا،اترا کر چلنا،اکڑ کر چلنا،جھولنا،ڈانواڈول ہونا گھڑی کے لٹکن کی طرح ہلنا،آگے پیچھے حرکت کرنا،لہرانا،جھومنا،تھرتھرانا،

تھرانا۔تَخَاطَر علی: پر شرط لگانا۔خَطَر: باوقار ہونا،مہتم بالشان ہونا،اہمیت،وقعت،متانت،سنجیدگی،تشویشناکی،بھاری پن،وزن جمع خَطَرات و اَخطار: ہولناکی،خطرہ،ڈر،اندیشہ،خوف۔خطرٌ علی: (کو) دھمکی،ڈرانا،چشم نمائی،تہدید،سرزنش۔خطر جمع خطرات و اخطار: خطرناک ہونا،خطرناکی،ہولناکی،خطرہ،اندیشہ،جوکھوں (جمع خِطار): شرط،بازی،داؤں،شرط کا روپیہ جو پہلے سے متعین ہو۔جلیلُ الخطر: نہایت اہم،مہتم بالشان ذو خطر: خطرناک،خوفناک مُعَرَّضٌ للخطر: خطرے میں پڑا ہوا،جوکھوں میں ڈالا ہوا،نقصان پہنچایا ہوا۔اِشارةُ الخطر: خطرے کا اشارہ۔خَطِر: خطرناک،خوفناک،جوکھوں کا،خطرے والا،جوکھوں والا،سنگین،تشویشناک،بوجھل،اہم معنی خیز۔خَطْرَة جمع خَطَرات: شان و شوکت دکھانے کی چال،اترا کے چلنا،اکڑ کے چلنا،لپک کی چال،خیال،فکر تصور رائے،نظریہ۔خَطَّار: پنڈولم۔خَطِیر جمع خُطُر: اہم،بہت اہم،معنی خیز،سنگین،تشویشناک۔خطیر الشان: نہایت اہم۔خُطُورَة: اہمیت،وزن،سنجیدگی،متانت،تشویشناکی۔خَطَرَان: اہتزاز،جنبش،لرزش،ارتعاش۔اَخْطَر: زیادہ خطرناک،زیادہ بوجھل،زیادہ اہم،زیادہ سنگین،زیادہ تشویشناک۔مَخَاطِر: خطرے،سخت خطرے۔مُخَاطَرَة جمع مُخَاطَرات: خطرہ،جوکھوں،جوکھوں کا کام خطرناک کام،قسمت آزمائی۔اِخطار: اطلاع،آگاہی،تنبیہ۔خَاطِر جمع خَوَاطر: خیال،ذہن،نفس،خواہش،تمنا،رغبت،میلان،پسند۔لاجلِ خاطِرِك: تمہاری خاطر تمہارے واسطے،تمہارے لئے۔مِن كلِّ خَاطرٍ: بڑی خوشی سے،مکمل طور پر،دل کی گہرائی سے۔عن طیبة خاطرٍ: بمسرت۔رضا کارانہ،دل سے۔عَلی خاطِرِكَ: جیسا تم چاہو۔اخذ بخاطِرِه: کو آرام دینا،مطمئن کرنا،کے اندیشے دور کرنا۔اخذ علی خاطره من: کی طرف سے دل کو ٹھیس پہنچنے کا احساس کرنا،سے ناراض ہونا۔صَدَّعَ خاطِرَهُ: کی ناک میں دم کرنا،کو پریشان کرنا۔طَمَّن الخواطر: جوش روکنا۔مَرَّ بخاطِرِه ان: اس کے دل میں خیال گزرا کہ.....اکراماً لِخاطِرِكَ: تمہاری خاطر،تمہیں خوش کرنے کے لئے۔سُرعَةُ الخاطر: ہوشمندی،خطرے میں بھی حواس قائم رکھنا،اوسان خطا نہ ہونے دینا۔سریعُ الخاطِر: زود فہم،ذکی۔مُخَاطِر: خطرے میں کود جانے والا،

بہادر،جری،دلیر،کسی بات کا خطرہ کا مول لینے والا،قسمت آزما۔مُخْطِر: خطرناک،جوکھوں کا،سخت خطرے کا،خطرے والا،جوکھوں والا۔

○خَطْرَف: ہذیانی ہونا،بدحواس ہونا (ہذیان میں) بکے جانا،بیہودہ گفتگو کرنا۔خَطْرَفَة: ہذیان،چلا چلا کر بولنا،ہذیان میں بکے جانا۔

خطف: ۱۔خَطِفَ َ خَطْفًا الشیءَ: کو اچک لینا۔ البرقُ البصرَ: بجلی کا آنکھ کو چندھیا دینا یا اندھا کر دینا۔ السمعَ: چوری سے سننا۔ و خَطَفَ ِ خَطَفانًا: تیز چلنا،جلدی چلنا۔صفت خَطِیف و خَیْطَف۔خَطَّفَ: (مبالغہ) بہت تیزی سے چھین لینا۔اَخْطَفَ الرجلُ: آدمی کا تھوڑا سا بیمار ہونا اور جلد اچھا ہو جانا۔تَخَطَّفَ و اِخْتَطَفَ الشیءَ: کو چھین لینا،کھینچنا،نکال لینا۔الخَطْف (مص): چھینا،بعض کے نزدیک: جھٹ پٹ چھینا۔الخَطْفَة: جھپٹنا،عضو جس کو درندہ جھپٹا مار کر زندہ جانور کے جسم سے اتار لے۔بچہ کا ماں کا جلدی سے تھوڑا سا دودھ پی لینا۔الخَاطِف (فا) جمع خَوَاطِف: زمین پر لگ کر نشانہ پر لگنے والا تیر۔الخَطَفَی و الخَیْطَفی: تیز رفتاری۔کہا جاتا ہے: هو یمشی الخَطَفی: وہ تیز چال چلتا ہے۔الخطفی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا حال ہونے کی وجہ سے۔تقدیر کلام ہے یمشی سریعاً: وہ تیز چلتا ہے۔الخَاطُوف: درانتی کی طرح کا ایک اوزار جس کو جال میں باندھ کر ہرن وغیرہ کو پکڑتے ہیں۔الخَطَّاف: الخاطف کا اسم مبالغہ چور،شیطان۔الخُطَّاف: چور (ح): ایک لمبے بازوؤں والا چھوٹے پاؤں والا سیاہ رنگ کا پرندہ۔خُطَّف بھی کہلاتا ہے۔جمع خَطَاطِیف: آنکس کی طرح ایک قسم کا ٹیڑھا لوہا جس سے چیز اچک لی جائیں۔خطاطیف السباع: درندوں کے چنگل۔

۲۔اَخْطَفَهُ: سے نظر بچانا۔اَخْطَفَهُ المرضُ: کی بیماری کا زور گھٹ جانا بالکل چلا جانا۔الخُطُف و الخُطُف: لاغری،پہلوؤں کا دبلاپن۔الاَخْطَفُ الحشی: دبلا،پتلا۔لونُهُ مَخْطُوف: زرد ہونے والا رنگ (عام زبان میں)۔

○خَطَفَ َ و خَطِفَ ِ خَطْفًا ہ: کو چھین لینا،جھپٹنا،پر جھپٹا مارنا،زور سے کھینچنا،ہتھیانا،زبردستی چھیننا،زبردستی لینا،کو لے کر بھاگ جانا۔ ہ: کو اغوا کرنا،کو غیر قانونی طور پر اٹھا لینا۔ البصرَ: آنکھیں چندھیانا،خیرہ کرنا۔تَخَطَّفَ ہ: کو لے جانا،رو میں

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بہالیجانا، بےخود کرنا۔ تَخَاطَفَ ہ: کو ایک دوسرے سے چھیننا۔ اِنْخَطَفَ: چھننا، جھپٹا جانا، لیجایا جانا، بہا لیجایا جانا۔ اِخْتَطَفَ ہ: کو چھیننا، زبردستی لینا۔ –ہ من: کو سے چھیننا، جھپٹنا۔ –ہ: کو اغوا کرنا، غیر قانون طور پر اٹھالینا۔ –ھا: عورت کو لے بھاگنا۔ –ہ: کو لے کر بھاگ جانا، فرار ہو جانا۔ –البصرَ: آنکھیں چندھیانا، خیرہ کرنا۔ خطف: چھیننا، زبردستی لینا، عصمت دری، اغوا۔ خَطْفًا: تیزی سے، جلدی سے۔ خَطْفَة جمع خَطَفات: ہتھیانا، چھیننا۔ شعلہ، اچانک بھڑکنا۔ فی خطفةِ البرق: آناً فاناً، اسی دم اسی وقت، فوراً، بلاتوقف، ایک پل میں، برق صفت خَطْفَةٌ من خطفات الشعور: لہر، ترنگ، جذبہ، تحریک، اچانک جوش، ولولہ۔ خطّاف: سخت لالچی، ڈاکو۔ خُطّاف جمع خطاطیف: (آہنی) آنکڑا، کانٹا، مچھلی پکڑنے کا کانٹا، –اسم جنس واحد خُطّافة): ایک قسم کا ابابیل تیز پرواز ابابیل۔ خِطّیف جمع خطاطیف: آہنی آنکڑا، کانٹا اختطاف: چھیننا، زبردستی لینا، عصمت دری، اغوا۔ خاطِف جمع خواطِف: سخت لالچی، حریص، خونخوار (درندہ)، تیز، تیز رو، تیز رفتار، جلد، تیار، مستعد، چست، پھرتیلا، ناگاہ، اچانک، فوری، بجلی کی طرح، برق جیسا، مختصر، ناپائیدار، رواں، گزراں، ذئاب خاطفة: خونخوار بھیڑیے۔ صورة خاطِفة: سرسری فوٹو سنیپ شاٹ۔ (Snaposhot) فوری طور پر لی گئی فوٹو۔ حرب خاطِفة: بجلی کا سا حملہ، اچانک سخت حملہ۔

خطل: ۱۔ خَطِلَ – خَطَلًا و اَخْطَلَ فی کلامه: بہت بیہودہ گفتگو کرنا۔ فی منطقه او رأیه: بولنے یا رائے میں غلطی کرنا۔ الخَطَل (مص): بےوقوفی، سبکی، سرعت، نہایت ردی، لغو گفتگو، بیہودہ گفتگو۔ پریشان گفتگو جیسے شاعر کا کہنا: اصالة الرأی صانتنی من الخَطَل: رائے کی اصالت نے مجھے بیہودہ گفتگو سے بچالیا یا غلطی سے بچالیا۔ الخَطِل جمع اَخطال: بیہودہ گفتگو کرنے والا، احمق، –من السهام: نشانہ خطا کرنے والا تیر۔ الخاطِل: باطل الأَخطَل مؤنث خَطْلاء جمع خُطْل: بیہودہ گفتگو کرنے والا، ناشائستہ، فحش۔

۲۔ تخطَّل فی المشی: چلتے ہوئے متکبرانہ چال چلنا۔ الخَطَل: کہا جاتا ہے، اری فی مشیته خَطَلًا: اس کی چال میں کمزوری اور فرق پاتا ہوں۔

۳۔ الخَطَل: سرعت، طول، انسان، گھوڑے اور نیزہ میں بےڈول پن۔ الخَطِل: تیزی سے نیزہ مارنے والا (جیسے: الاحوس فی الهیجاء بالرمح خَطِل: بہادر و دلیر لڑائی میں تیزی سے نیزہ مارنے والا ہوتا ہے۔) ثوبٌ خَطِل جمع اَخطال: موٹا کھردرا کپڑا جو لمبا ہونے کی وجہ سے زمین پر گھسٹے۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ خَطِل الیدین: کھردرے ہاتھوں والا آدمی۔ رُمحٌ خَطِلٌ: بےڈول لمبا نیزہ۔ خَطِلٌ بالمعروف: بخشش میں جلدی کرنے والا۔ الاَخطَل مؤنث خَطْلاء جمع خُطْل: لمبے اور ڈھیلے کانوں والا۔ الخَیْطَل (ح): کتا (ح) بلی، مصیبت، عطر فروش، ٹڈی دل۔

○ خَطِلَ – خَطَلًا: بیہودہ گوئی کرنا۔ اَخطَلَ: بیہودہ گوئی کرنا۔ تَخَطَّلَ: اترانے چلنا، اکڑ کے چلنا، شان و شوکت دکھانے والی چال سے چلنا، تکبرانہ اور لپک کر چلنے والی چال سے چلنا۔ خَطَل: بیہودہ گفتگو، طفلانہ گفتگو۔ خَطِل: بکواسی، گپی، باتونی، ہرزہ سرائی کرنے والا، یاوہ گو، نادانی کی باتیں کرنے کا عادی بیوقوف، احمق۔

خطم: ۱۔ خَطَمَ – خَطْمًا ہ بالخِطام: کو نکیل ڈالنا –الرجلَ: آدمی کی ناک پر مارنا۔ خَطَّمَ ہ بالخطام: کو نکیل ڈالنا۔ اِخْتَطَمَ الخِطامَ: نکیل ڈالنا۔ الخَطْم (مص): ناک (انسان کا)، چونچ (پرندہ کی) –من الدابة: چوپایہ کی ناک اور منہ کا سامنے کا حصہ۔ الخاطِم (فا): کہا جاتا ہے: فلانٌ خاطِمُ امر بنی فلان: فلاں شخص بنی فلاں کا راہبر و پیشوا اور ان کے معاملات کا منتظم ہے۔ الخِطام جمع خُطُم: مہار، نکیل۔ الاَخطَم مؤنث خَطْماء جمع خُطْم: لمبی ناک والا۔ المَخْطِم و المَخْطَم ج مَخاطِم: ناک۔ الخَطّام: اسم مبالغہ۔ مسکٌ خَطّام: وہ مشک جو اپنی خوشبو سے ناک بھر دے۔

۲۔ خَطَمَ – خَطْمًا ہ بالکلام: کو گفتگو سے خاموش کر دینا۔

۳۔ خَطَمَ – خَطْمًا و خِطامًا القوسَ بالوتر: کمان پر تانت چڑھانا۔ الخِطام جمع خُطُم: کمان کی تانت۔

۴۔ الخَطْم: بڑا یا اہم کام یا معاملہ۔ الأَخطَم مؤنث خَطْماء جمع خُطْم: سیاہ، کالا۔ الخَطْمیّ و الخِطْمیّ واحد خَطْمِیّة (ن): خطمی خبازی۔ ایک پودا جس کا تنہ سیدھا اور لمبا ہوتا ہے۔ پھول سرخ وسفید ہوتے ہیں۔

○ خَطْم: ناک، تھوتھنی، چونچ (ناک اور منہ کا) سامنے کا حصہ، پہلا حصہ، اہم معاملہ۔ اَطَلَّ بخَطْمِهِ: اپنی قوت کا اظہار کرنا (مصیبت کا) شروع ہونا۔ خِطام جمع خُطُم: نکیل، مہار۔

خطا: ۱۔ خَطَا – خَطْوًا: قدموں کے درمیانی حصہ کو کھول کر چلنا۔ خَطّی و اَخْطَى الرجلَ: قدموں کو کشادہ کر کے چلنا۔ تَخَطّی تَخَطِّیًا و اِخْتَطی اِخْتِطاءً ہ الی کذا: کی طرف سے آگے گذر جانا، سبقت کرنا۔ الخُطْوَة جمع خُطًى و خُطُوات و خُطَوات و خُطْوات: چلنے کے وقت دو قدموں کا فاصلہ عوامی اصطلاح میں خَشْخَة۔ مسافت۔ کہا جاتا ہے: قَرَّبَ اللّٰه علیك الخُطْوَة: اللہ تعالیٰ مسافت کو تمہارے لئے قریب کر دے۔ الخَطْوَة جمع خَطَوات و خِطاء: خطا کا اسم مرہ۔ قدم، گام، ڈگ، ایک قدم کا فاصلہ، لمبا قد، دو پیروں کے درمیان کا فاصلہ۔ –فی المساحة: چھ قدم۔

۲۔ خُطِّیَ عنه الشیءُ: سے کچھ دور کیا جانا۔

۳۔ الخَطِیَّة: خطا، گناہ۔

○ خَطَا – خَطْوًا: قدم اٹھانا آگے بڑھنا، آہستہ چلنا، قدم قدم چلنا، بندھی رفتار سے چلنا، چلنا، چلتا جانا، ترقی کرنا، سبقت کرنا، خَطَا خَطَواتٍ: بڑے بڑے ڈگ بھرنا۔ (مجاز) غیر معمولی ترقی کرنا۔ خَطّی و تَخَطّی ہ: کی حد سے بڑھنا، کو عبور کرنا۔ میں سے گذرنا، چلنا، دریا کو پایاب مقام سے پار کرنا۔ –: دریا کا اپنے کناروں سے باہر آنا۔ البحار: سمندروں کو پار کرنا، سمندروں کے پار جانا۔ –ہ: کو چھوڑ دینا، سے بےالتفاتی کرنا، کو نظرانداز کرنا، سے تجاہل برتنا، کا کچھ خیال نہ کرنا کے قریب سے گزر جانا۔ –ہ: کے دوسری طرف جانا۔ –الی: تک پھیلنا، –ہ: سے زیادہ ہونا، سے ماوراء ہونا۔ –ہ: سے بازی لیجانا، سبقت لیجانا، پر سبقت لیجانا سے آگے نکل جانا، سے بہتر کام کرنا۔ –ہ الی: سے گزر کر تک جانا، کو پیچھے چھوڑ کر کسی دوسری طرف رخ کرنا۔ ہ/ہ الی: کو نظرانداز کر کے کی طرف متوجہ ہونا۔ تخطّی به الی الامام: کسی چیز کو ترقی دینا، آگے کرنا بڑھانا۔ اِخْتَطی: قدم اٹھانا آگے بڑھنا، آہستہ قدم چلنا، بندھی رفتار سے چلنا، چلنا، ترقی کرنا۔ خُطْوَة جمع خَطَوات و خُطُوة جمع خُطُوات و خُطْوات و خُطًى: قدم، گام، ڈگ، چال، رفتار، ایک قدم کا فاصلہ، لمبا قدم، دو پیروں کے درمیان کا فاصلہ۔ سار فی خُطاه: کے نقش قدم پر چلنا۔ تَقَدَّمَ خُطْوَةً خُطْوَةً: قدم قدم بڑھنا۔ اِتَّخَذَ خطوةً حاسِمةً:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فیصلہ کن قدم اٹھانا۔خَطوتان و قَفزَة: کود، جست، زقند، چھلانگ۔پھلانگ خَطِیَّة: گناہ، جرم، خطا، غلطی، سہو، چوک، لغزش تجاوز، خلاف ورزی۔خُطَاۃ (خاطی کی جمع) گنہگار لوگ۔

خظا خَظَا ُ خُظُوًّا لحمُهٗ: کا گوشت گٹھا اور سخت ہونا۔اَخظَی الرجلُ: موٹا ہونا، فربہ ہونا۔ ۔ہٗ: کو موٹا کرنا، فربہ کرنا۔الخَظِی: گٹھے بدن والا کہا جاتا ہے۔امرأۃٌ خَظِیَّةٌ بَظِیَّةٌ: گٹھیلے بدن کی عورت۔

خفّ ۱۔خَفَّ ِ خَفًّا و خِفَّةً و خَفَّةً: ہلکا ہونا۔ خفَّفَ الشیءَ: کو ہلکا کرنا۔الثوبَ: کپڑے کو باریک بنانا۔الحرفَ: حرف کو تشدید نہ دینا۔اَخَفَّ: تھوڑے سامان و اسباب والا ہونا۔تَخَافَّ: ہلکا پھلکا ہونا۔اِستَخَفَّ ہٗ: کو ہلکا جاننا۔الخِفّ: ہلکا۔الخِفَّة (مص) جسم، عقل اور عمل کا ہلکا پن۔الخَفِیف۔ جمع اَخِفَّاء و خِفاف و اَخفَاف: ہلکا کہا جاتا ہے ہو خَفِیفُ الروح: وہ مہربان اور اچھی صفت والا ہے۔ ہو خفیف القلب: وہ ذہین ہے۔)علم عروض کی اصطلاح میں ایک بحر کا نام۔ اس کا وزن ہے: فَاعِلاتُن مُستَفعِلُن فَاعِلاتُن۔ الخُفَاف: ذہین، تیز فہم۔

۲۔خَفَّ ِ خَفًّا و خِفَّةً و خُفُوفاً الی العدو: دشمن کی طرف جانے میں تیزی کرنا، جلدی کرنا۔ ۔القومُ: جلدی سے کوچ کرنا۔تَخَفَّفَ: جلدی کرنا۔الخَفِیف جمع اَخِفَّاء و خِفَاف و اَخفَاف: کام یا چلنے میں پھرتیلا۔کہا جاتا ہے ہو خفیف الید: وہ کام میں پھرتیلا ہے۔

۳۔خَفَّ ِ خَفًّا و خِفَّةً و خَفَّةً: کم مال والا ہونا۔ ۔المطرُ: بارش کا کم ہونا۔ ۔خَفًّا و خِفَّةً و خُفُوفاً القومُ: کم ہونا۔اَخَفَّ: رقیق الحال ہونا۔الخِفّ: تھوڑی جماعت، کہا جاتا ہے خَرَجَ فی خِفٍّ من اصحابه: وہ اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔الخَفِیف جمع اَخِفَّاء و خِفَاف و اَخفَاف: کہا جاتا ہے: ہو خَفِیفُ الظهر: وہ کم اولاد والا ہے۔کہا جاتا ہے ہو خفیفُ العَارِضَین: وہ تھوڑی داڑھی والا ہے۔

۴۔خَفَّ ِ خَفًّا و خِفَّةً و خَفَّةً: کم عقل ہونا۔اَخَفَّ الرجلَ: کو جہالت پر اکسانا، کی بدگوئی کرنا۔ اِستَخَفَّ ہٗ: کو حق و راستی سے ہٹا دینا، کو جاہل سمجھنا۔ ۔بہ: کو حقیر جاننا۔ ۔ہٗ الغناءُ: کو گانے کا طرب و نشاط میں لانا۔ ۔ہٗ الطربُ: خوشی سے پھولے نہ سمانا کو خوشی کا فسق و فجور پر اکسانا۔الخَفِیف جمع اَخِفَّاء و خِفَاف و اَخفَاف: کہا جاتا ہے: ہو خفیفُ العقل: وہ احمق ہے۔

۵۔تَخَفَّفَ: چمڑے کا موزہ پہننا۔الخُفّ جمع اَخفَاف و خِفَاف: موزہ چرمی۔کہا جاتا ہے۔خُفٌّ ضَاحِكٌ: پھٹا ہوا موزہ، جس میں قدم کا کچھ حصہ نظر آتا ہو، قدم کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ ۔للبعیر و النعام: اونٹوں اور شترمرغ کی ٹاپ: الخَفَّاف: چرمی موزے بنانے والا۔

۶۔الخُفّ: سخت زمین۔الخُفُوف (ح): بجو۔

۷۔خَفخَفَ خَفخَفَةً الخنزیرُ او الضبعُ: سؤر یا بجو کا آواز نکالنا۔ ۔الرجلُ قمیصَه الجدیدَ او القرطاسَ: کوئی قمیض یا کاغذ کو حرکت دینے سے اس کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دینا۔الخَفخَاف: وہ شخص جس کی آواز ناک سے نکلتی ہوئی معلوم ہو۔

○ خَفَّ ِ خَفًّا: (بوجھ کا) ہلکا ہونا، غیر اہم ہونا، معمولی ہونا۔زیادہ ہلکا ہو جانا، وزن میں کم ہو جانا، بے وزن ہونا، وزن کھو دینا (رنگ کا) زیادہ پھیکا ہونا، شدت میں کم ہونا، پھرتیلا ہونا، تیز ہونا۔ ۔الی: کی طرف جلدی جانا، جلدی کرنا، تیزی سے جانا۔خَفَّفَ ہٗ: کو زیادہ ہلکا کرنا، کا وزن کم کرنا۔عن ہٗ/علی ہٗ: کے لئے، کسی مشکل بات کو ہلکا کرنا، نرم کرنا، ڈھیلا کرنا، کم کرنا۔ ۔ہٗ/من: کو کم کرنا، گھٹانا، ہلکا کرنا، کی سختی کم کرنا۔ ۔ہٗ (سیال) کو پتلا کرنا، ہلکا کرنا خَفِّفْ عنك: خوش ہو جاؤ، ہمت نہ ہارو، امید قائم رکھو!۔ خَفِّفْ من سرعتِكَ: رفتار آہستہ کرو!۔خَفَّفَ الآلامَ عنه: کی تکلیفوں کو تسکین پہنچانا۔تَخَفَّفَ: ہلکا پھلکا لباس پہننا، اپنا بوجھ ہلکا کرنا۔ ۔من: خود کو سے آزاد کرنا، سے جان چھڑانا، سے پیچھا چھڑانا، سے نجات حاصل کرنا۔ ۔عن: سے بسرعت دور ہو جانا، کو جلدی سے ترک کرنا، چھوڑ دینا۔اِستَخَفَّ ہٗ: کو ہلکا سمجھنا۔ ۔ب: کی قدر نہ کرنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، سے نفرت کرنا، کو ذلیل جاننا، حقیر سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، کو کچھ نہ جاننا، کو معمولی سمجھنا، کو سنجیدگی سے نہ لینا، کو کوئی اہمیت نہ دینا۔ ۔ہٗ: کو خوشی کا جامے سے باہر کر دینا، پھلا دینا، آپے سے باہر کر دینا۔خُفّ جمع خِفاف و اخفاف: جوتا، سلیپر (جمع اَخفَاف): اونٹ کا سم، کھر، شترمرغ کا پاؤں، پاؤں کا تلوا، جوتے کا تلا۔رَجَعَ بِخُفَّی حُنَین: ← خالی ہاتھ لوٹنا، مقصد پورا کئے بغیر لوٹنا، کچھ نہ کرنا، ناکام ہونا، ناروا ہونا۔خِفَّة (وزن کا) ہلکا ہونا، غیر اہم ہونا، سبکی، ہلکا پن، کمزوری، نزاکت، حقیر ہونا، شگفتہ خاطری، شوخی، زندہ دلی، خوش طبعی، چستی تیزی، پھرتی، چالاکی، تیز فہمی، چابکدستی، سبک رفتاری عدم استقلال، تلون مزاجی، بے ثباتی، ناپائداری، ناسمجھی، بے وقوفی، اوچھاپن، چھچھوراپن، خفةُ الحركة اور خِفَّة فی الحركة: پھرتی، تیزی، تیز رفتاری، چستی، چالاکی، جلدی، مستعدی، زیرکی، ذہانت۔خِفَّةُ الدم، دل نوازی، خوش خلقی، ملنساری، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دلبری دل آویزی، حسن و جمال۔خفة الروح: بمعنی خفة الدم، خفة الید: سبک دستی چابکدستی، ذہانت، تیز فہمی، ہنرمندی، چالاکی، ہوشیاری دستی مہارت۔اَخَفّ: زیادہ ہلکا، زیادہ معمولی، کمزورتر۔ اَخَفُّ الضَرَرَین: دو برائیوں میں سے کمتر برائی۔ خَفَاف و حجرُ الخِفاف: جھانوا۔خُفَّان: جھانوا۔خفیف جمع خِفَاف و اَخفَاف و اَخِفَّاء: ہلکا، معمولی، تھوڑا، غیر اہم، پتلا، بمشکل کچھ، بہت کم، ناکافی، نہ ہونے کے برابر چھدرا، چست چالاک، سبک رفتار، پھرتیلا، ذہین، تیز فہم بشاش، چلبلا، شوخ، خوش مزاج، زندہ دل، خوش طبع تیز طراز، سرگرم، جوشیلا، زوردار۔خفیف الحركة: آسانی سے منتقل کیا جا سکنے والا، نہایت متحرک، چست چالاک، پھرتیلا سبک رفتار۔خفیف الدم: ملنسار، خوش خلق، دل آویز دلکش، دل پسند قابل محبت، دلفریب، دلربا۔ خفیف الظل: پسندیدہ، عمدہ (شخص)۔ خفیفُ العقل: کمزور ذہن والا، بیوقوف۔خفیفُ الید: مشاق، ماہر، منجھا ہوا، تیز دست، سبک دست۔ظروف التخفیف و ظروف مُخَفِّفَة: جرم کی نوعیت کو کم کرنے والے حالات مُخَفَّف: پتلا، پتلا کیا ہوا۔

خفا: خَفَا ُ خَفْوًا الشیءَ: کو اکھیڑ کر زمین پر پٹکنا۔ ۔البیتَ: گھر کو ڈھانا، گرانا۔

خفت: اِخفَتَ ُ خُفَاتًا: اچانک موت سے مرنا۔ خُفُوتًا الصوتُ: آواز کا پست ہونا۔صفت خَافِت و خَفِیت۔ خَفَتًا بكلامه و بصوته: کلام اور آواز کو پوشیدہ رکھنا، پست کرنا، آہستہ کرنا۔ ۔بالقراءۃ: پست آواز سے پڑھنا۔خَافَتَ ہٗ: کے ساتھ پست آواز سے گفتگو کرنا۔ ۔بکلامه و بصوته: گفتگو اور آواز کو پست کرنا۔تَخَافَتَ: بتکلف سکون اور ضعف کا اظہار کرنا۔ ۔بكلامه و بصوته: گفتگو اور آواز کو پست کرنا۔ ۔بالقراءۃ: پست آواز سے پڑھنا۔ الخُفُوت: کمزوری، سکون۔

۲۔الخَفت (ن): ایک قسم کا پودہ، اسپند، کالادانہ، سداب۔ الخافِت: پانی سے خالی بادل۔زرعٌ خَافِت: کمزور

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پودہ جو اونچا نہ ہوا ہو۔الخَفتان: چلتہ: ایک قسم کا لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے (فارسی لفظ)۔

○ خَفَتَ ـُ خُفُوتًا: دھیما ہونا، سنائی نہ دینا، بہت آہستہ بولنا، ختم ہو جانا، مر جانا، فنا ہو جانا، چپ ہو جانا۔ خاموش ہو جانا، ساکت ہو جانا۔ خَافَتَ بکلامهٖ /بصوته: اپنی آواز کو پست کرنا۔اَخْفَتَ ہ: کو خاموش کر دینا، چپ کرا دینا، کو خاموشی کی حالت میں لانا۔خُفُوت: ماند پڑنے والا، دھیرے دھیرے گھٹنے والا۔خَافِت: کمزور اور ماند ہونے والا، بتدریج پست ہونے والا بہت دھیما، جو سنائی نہ دے، خاموش ہو جانے والا، کمزور، ماند، مرنے والا، زائل ہونے والا، ماند پڑنے والا۔ بتدریج خاموش تر اور پھر رک جانے والی (آواز) نرم، دھیما، ہلکا (رنگ، روشنی) مُخْتَفِت: نرم، نیچا، پست، مغلوب، دھیما، ہلکا۔

خفج: خَفِجَ ـَ خَفَجًا البعیرُ: اونٹ کا ٹانگوں کی کپکپاہٹ کی بیماری میں مبتلا ہونا۔الخَفَج: ٹانگوں کی کپکپاہٹ۔الأَخْفَج: ٹیڑھے پاؤں والا، ٹانگوں کی کپکپاہٹ کے مرض میں مبتلا۔عمودٌ اَخْفَج (ب): ٹیڑھا ستون۔الخَفِیج: کمزور، ست، ڈھیلا۔

خفد: خَفَدَ ـُ خَفْدًا و خَفَدانًا و خَفِدَ ـَ خَفَدًا: تیز چلنا۔الخُفْدُد و الخُفْدُود (ح): چمگادڑ کی مانند ایک پرندہ۔الخَفَیْدَد جمع خَفَادِد و خَفَادِید (ح) نر شترمرغ۔

خفر: ا۔خَفَرَ ـِ خَفْرًا و خَفَرًا ہُ و بہ و علیہ: کو پناہ دینا، کی حفاظت کرنا، کو امن دینا۔ ـہُ: سے اس کی حفاظت کے لئے اجرت لینا۔خَفَّرَہُ: کو امن دینا کی حمایت کرنا، (شہر) کے گرد دیوار بنانا۔اَخْفَرَہُ: کے ساتھ محافظ بھیجنا۔تَخَفَّرَ بہ: کو پناہ دینا، کے پاس پناہ لینا، سے اپنا محافظ ہونے کی درخواست کرنا۔الخُفْرَۃ: پناہ دینا، حفاظت کرنا، امن دینا، حفاظت، ذمہ (کہا جاتا ہے ھو فی خُفْرَۃِ اللّٰہ: وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا ذمہ میں ہے۔ھذا خُفْرَتِی: وہ میرا راہبر و محافظ ہے)۔پناہ دینے والا۔المَخْفَر جمع مَخَافِر: پولیس چوکی، فوجی چوکی۔الخَفِیر جمع خُفَرَاء: جس کو پناہ دی گئی ہو، پناہ دینے والا، حمایت و حفاظت کرنے والا۔الخفارۃ (بتثلیث الخاء): پناہ دینا، حفاظت کرنا، امن دینا، حفاظت، جان و مال کی حفاظت۔ الخُفَارَۃ: چوکیدار کی تنخواہ۔

۲۔خَفَرَ ـُ وخُفُرًا و خُفُورًا بالعھد: عہد پورا کرنا ایفائے عہد کرنا۔

۳۔خَفَرَ ـِ خَفْرًا و خُفُورًا فلانًا: کے ساتھ عہد کو توڑ دینا، کے ساتھ بے وفائی کرنا۔اَخْفَرَہُ: کے ساتھ عہد توڑ دینا سے بے وفائی کرنا۔

۴۔خَفِرَ ـَ خَفَرًا و خَفَارَۃً ت الجاریۃ: لڑکی کا بہت شرم کرنا۔صفت خَفِر و خَفِرَۃ و مِخْفَار۔ تَخَفَّرَتِ الجاریۃ: لڑکی کا بہت شرمیلی ہونا، بہت شرم کرنا۔

○ خَفَرَ ـُ خَفْرًا و خِفَارَۃً ہ/ ہ: کی نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا، کی دیکھ بھال کرنا۔خَفِرَ ـَ خَفَرًا و خَفَارَۃً: بزدل ہونا، ڈرپوک ہونا، بودا ہونا، شرمیلا ہونا، لجیلا ہونا، حیادار ہونا۔خَفَّرَ ہ/ہ: بمعنی خَفَرَ ہ/ہ: تَخَفَّرَ: بمعنی خَفِرَ۔ خَفْر: نگہبانی کرنا، پہرہ داری، پہرہ، نگہداری، پاسبانی حفاظت کرنا، پہرہ دینا۔حفاظت۔خَفَر: حفاظت کرنے والا دستہ، گارڈ، محافظ، حفاظتی دستہ۔خَفَرُ السَّوَاحِل: بحری پولیس۔ خَفَر: بزدلی، شرم، حیا، لاج، شرمیلا پن۔خَفِر: شرمیلا، بے حوصلہ، جھجکنے والا، بزدل، ڈرپوک، لجیلا، حیا دار، پریشان؟ شرمیلی، لجیلی، حیا دار (لڑکی عورت)۔خَفِیر جمع خُفَرَاء: چوکیدار، حفاظت کرنے والا، پہریدار سرپرست، گارڈ، محافظ، سنتری، فوجی پہریدار۔خِفَارَۃ: پہریداری کرنا، نگہبانی کرنا، پہریداری، نگہبانی، پہرہ، حفاظت، مَخْفَر جمع مَخَافِر: گارد، چوکی، نگرانی کی چوکی مَخْفَرُ الشُّرطۃ: تھانہ، پولیس سٹیشن۔ خَافِرَۃِ السَّوَاحِل: سمندر میں گشت کرنے والا ساحلی پولیس کا جہاز۔مَخْفُور: زیر حفاظت، حفاظتی دستہ کے ہمراہ، محفوظ، زیر پناہ، اوٹ میں کیا ہوا۔

خفس: ا۔خَفَسَ ـِ خَفْسًا: بہت بدزبانی کرنا۔ ـُ خَفْسًا ہُ: سے ٹھٹھا کرنا۔اَخْفَسَ: بہت بدزبانی کرنا۔شرابٌ مُخْفِس: جلد ست، مدہوش یا مخمور کرنے والی شراب، جس سے پینے والا بدزبانی پر اتر آتا ہے۔

۲۔خَفَسَ ـُ خَفْسًا الطعامَ او الشرابَ: تھوڑا کھانا یا پینا۔

۳۔خَفَسَ ـُ خَفْسًا البناءَ: عمارت کو ڈھانا، مسمار کرنا تَخَفَّسَ الرجلُ: لیٹنا۔

۴۔اِنْخَفَسَ الماءُ: پانی کا متغیر ہونا۔

○ خَفَسَ ـُ خَفْسًا ہ: سے تمسخر کرنا، کی ہنسی اڑانا، سے نفرت کرنا، کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، برا خیال کرنا، پر ہنسنا، کا مضحکہ اڑانا، طنز کرنا، کا مذاق اڑانا، پر استہزا کرنا۔ کو خفیف کرنا۔ـہ (مکان) کو تاہ کرنا، مسمار کرنا، ڈھانا۔

خفش: ا۔خَفَشَ ـُ خَفْشًا بہ: کو پھینکنا۔ـ البناءَ: عمارت کو مسمار کرنا، ڈھانا۔خَفَّشَ البناءَ: عمارت کو مسمار کرنا، ڈھانا۔ـ الرجلَ: کو پچھاڑنا، کچلنا۔

۲۔خَفِشَ ـَ خَفَشًا: کمزور ہونا، پیدائشی طور پر کمزور نظر والا ہونا، تنگ آنکھ والا ہونا، دن کا اندھا ہونا۔ رات کو دیکھنا دن کو نہ دیکھ سکنا۔صفت خَفِش و اَخْفَش۔ خَفَّشَ البدنُ: بدن کا کمزور ہونا۔الخُفَّاش جمع خَفَافِیش (ح): چمگادڑ۔

۳۔خَفَّشَ بالارض: زمین سے چمٹنا۔

○ خَفَش: دن کو دکھائی نہ دینا، دن کا اندھا پن اَخْفَش مونث خَفْشَاء جمع خُفْش: دن کا اندھا، کمزور نظر والا۔

خفض: ا۔خَفَضَ ـِ خَفْضًا ہُ: کو پست کرنا، نیچا کرنا۔ـ الصوتَ: آواز کو آہستہ کرنا، نرم کرنا۔ ـ الکلمۃ: کلمہ کو زیر دینا۔اِنْخَفَضَ: پست ہونا۔ـ الصوتُ: آواز کا پست ہونا۔اِخْتَفَضَ السعرُ: بھاؤ کا گرنا۔ الخَافِض (فا) اللہ تعالیٰ (اسماء حسنی میں سے ایک) جو ظالموں اور فرعونوں کو نیچا اور ذلیل کرتا ہے) کہا جاتا ہے: ھو خافِضُ الطیرِ و خافِضُ الجناحِ: وہ صاحب وقار اور متحمل مزاج ہے۔

۲۔خَفَضَ ـِ خَفْضًا الرحلُ: مرنا۔

۳۔خَفَضَ ـِ خَفْضًا الصوتُ: آواز کا نرم ہونا۔ ـ ت الابلُ: اونٹوں کا آہستہ اور نرم رفتار سے چلنا۔ـ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔خَفُضَ ـُ خَفْضًا العیشُ: زندگی کا آسودہ اور خوش حال ہونا صفت خَفِیض و خافِض و مَخْفُوض خَفَّضَ الشیءَ: کو نرم کرنا، آسان کرنا۔ اس سے ہے: خَفِّضْ عنك: اپنے اوپر نرمی کرو۔تَخَفَّضَ الامرُ: آسان ہونا۔ الخَفْض و الخَفِیضَۃ: زندگی کی آسودگی اور فراخی۔ کہا جاتا ہے ھو فی خفضٍ من العیش: وہ آسودہ اور فراخ زندگی میں ہے۔

○ خَفَضَ ـِ خَفْضًا ہ: کو نیچا کرنا، کم کرنا، گھٹانا، میں تخفیف کرنا، کمزور کرنا، (آواز) کو پست کرنا، گرانا (صلہ من کے ساتھ بھی اس معنی میں ہے) آخری لفظ کو زیر دینا خَفَضَ جناحَهُ لِ: کی طرف جھکنا، کے لئے کشادہ دل ہونا، ہمدرد ہونا، قابل رسائی ہونا۔خَفُضَ ـُ خَفْضًا: ذمہ داریوں اور پریشانیوں کے بغیر ہونا، با آرام ہونا آسودہ ہونا، سکھی ہونا، خوشحال اور مطمئن ہونا (زندگی کا)، (آواز کا) نیچا ہونا، پست ہونا۔ـ: بیٹھ جانا، دب جانا، دھنس جانا مدھم ہونا، فرو ہونا، ڈوبنا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گھٹنا، گرنا، رہنے لگنا، آباد ہونا خَفَّضَ ہ: چیز یا بھاؤ کم کرنا، گھٹانا۔ خَفِّضْ عليك: آرام سے، دھیرج سے، تحمل سے! خَفِّضْ عليك جاشك: پریشان نہ ہو، پُرسکون ہو جاؤ، جوش میں نہ آؤ۔ اَخْفَضَ صوته: اس نے اپنی آواز پست کر دی۔ تَخَفَّضَ و اِنْخَفَضَ: ڈوبنا، دب جانا، بیٹھ جانا دھنس جانا، کم ہونا، نیچا ہونا، (بھاؤ کا) گر جانا، گھٹ جانا خَفْض: کم کرنا، نیچا کرنا، پست کرنا، تخفیف، کمی، گھٹنا، گھاٹا، زوال، آواز بند کرنا، کانٹ چھانٹ، قطع برید، پابندی، زندگی کی آسودگی۔ آخری لفظ پر زیر لگانا۔ خفض القيمة: کونی کا گراؤ۔ خفض العيش: پریشانیوں اور ذمہ داریوں کے بغیر آسودہ زندگی، هو في خفض من العيش: وہ آسودہ اور آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ خفض الصوت: آواز کی پستی۔ حرف الخفض: حرف جار، حرف جر۔ خَفِيض: نیچی، نرم دھیمی (آواز)۔ تخفيض: نیچا کرنا، تخفیف کرنا، گھٹانا (خصوصاً بھاؤ) کمی، تخفیف، تقلیل، کاٹ چھانٹ، پابندی۔ انخفاض: ڈوبنا، گرنا، بیٹھ جانا، فرو ہونا، گر پڑنا، عام سطح پر آ جانا، کمی، تخفیف، تقلیل، گھٹاؤ، پانی کی سطح کا گرنا، جزر۔ انخفاض جوی: کم دباؤ کا علاقہ۔ مُخَفَّض: نیچا کیا ہوا، کم کیا ہوا، نیچا، واجبی (قیمت، بھاؤ، نرخ) مُنْخَفِض: کم، گری ہوئی (قیمت بلندی، رفتار وغیرہ)، نرم، نیچی، دھیمی (آواز) الاراضي المُنْخَفِضَة: پست زمین، نشیبی زمین، نشیب۔

خفع: ا۔ خَفَعَ ـَ خَفْعًا: بھوک وغیرہ کے باعث چکرا کر گر جانا۔ ـهُ بالسيف: کو تلوار سے مارنا۔ اَخْفَعَهُ الجوعُ: کو بھوک کا پچھاڑ دینا۔ اِنْخَفَعَ: بے ہوشی کے قریب ہونا۔

۲۔ خَفَعَ ـَ خَفْعًا و خَفَعَانًا السترُ: پردہ کا ہلنا۔

خفق: ا۔ خَفَقَ ـُ خَفْقًا هُ بالسيف: پر تلوار سے آہستہ ضرب لگانا۔ اَخْفَقَهُ: کو پچھاڑنا۔ الخِفْقَة: جس چیز سے مارا جائے، جیسے تسمہ وغیرہ المِخْفَق: چوڑی تلوار المِخْفَقَة: مارنے کا کوڑا، بعض کے نزدیک لکڑی کا کوڑا۔

۲۔ خَفَقَ ـِ خَفْقَاتِ النعلُ: جوتے کا چرانا۔ خَفَّاقُ القَدَم: وہ شخص جس کے قدم کا اگلا حصہ چوڑا ہو۔

۳۔ خَفَقَ ـِ خَفْقًا و خُفُوقًا و خَفَقَانًا الفؤادُ او الرايةُ او البرقُ او الريحُ: دل کا دھڑکنا، جھنڈے کا پھڑ پھڑانا، بجلی کا کوندنا، ہوا کا متحرک ہونا۔ ـُ خُفُوقًا الطائرُ: پرندے کا اڑنا۔ اَخْفَقَ: مضطرب ہونا۔ ـ الطائرُ: پرندے کا بازو پھڑ پھڑانا، پھٹ پھٹانا۔ ـ برأسه: اونگھ میں جھونکے کھانا۔ ـ بثوبه: کپڑے کو ہلا کر اشارہ کرنا۔ اِخْتَفَقَ العَلَمُ او السرابُ: جھنڈے یا سراب کا ہلنا۔ الخَفْق و الخَفِقَة و الخُفَق و الخُفَقَة جمع خِفَاق و خَفِقَات و خُفَقَات: پتلی کمر کا گھوڑا (خفقة و خُفَقَة میں "تا" تانیث کی نہیں بلکہ مبالغہ کی ہے)۔ الخَفْقَة: خَفَقَ کا اسم مرة الخافق (فا)۔ الخافِقان: مشرق و مغرب۔ الخَفَّاق: اسم مبالغہ۔ الخَوافِق و الخافِقات: خافقة کی جمع: جھنڈے۔ خوافِقُ السماء: ہوا چلنے کی چاروں سمتیں۔ الخَيْفَق: وسیع بیابان جس میں سراب چمکتا ہوا، دکھائی دے، بہت تیز رو گھوڑا یا اونٹنی۔ المَخْفَق: سراب والا ریگستان۔ المَخْفُوق (مفع): مجنون، پاگل۔

۴۔ خَفَقَ ـُ خُفُوقًا النجمُ: ستارے کا غروب ہونا۔ ـ الليلُ: رات کا اکثر حصہ گزر جانا۔ ـ الرجلُ في البلاد: ملک میں سفر کرنا۔ اَخْفَقَ النجمُ: ستارے کا غروب ہونا۔ رجلٌ خافِقُ العين: دھنسی ہوئی آنکھ والا۔ مَخَافِقُ النجم: ستاروں کے ڈوبنے کی جگہیں۔

۵۔ خَفَقَ ـُ خُفُوقًا المكانُ: جگہ کا خالی ہونا۔ اَخْفَقَ القومُ: قوم کے توشے کا ختم ہونا۔ مكانٌ خافِق: انسانوں سے خالی زمین۔

۶۔ اَخْفَقَ: حاجت طلب کرنا لیکن ناکام رہنا، محروم ہونا۔

۷۔ الخَيْفَق: مصیبت۔

○ خَفَقَ ـِ خَفْقًا و خَفَقَانًا و خُفُوقًا: مرتعش ہونا، کانپنا، لرزنا ہلنا، (دل کا) دھڑکنا، (جھنڈے کا) پھڑ پھڑانا، لہرانا (پرندے کا) پر پھڑ پھڑانا، ادھر ادھر ہلنا، تھرتھرانا، جھلملانا۔ ـ خَفْقًا: بجلی کا چمکنا، کوندنا۔ ـ ه: (انڈے، کریم وغیرہ) کو پھینٹنا۔ (جوتے کا) چرانا۔ خُفُوقًا (خفق خَفْقَةً) اونگھنا، اونگھ جانا اونگھتے ہوئے سر گرانا۔ ـِ خُفُوقًا: (آسمانی جرم) کا غروب ہونا۔ خَفَّقَ ه: (دیوار) کو چھوٹے پتھروں سے ڈھکنا، دیوار پر پلستر کرنا استرکاری کا مصالحہ چڑھانا۔ اَخْفَقَ: (پرندے کا) پر پھڑ پھڑانا، (جرم سماوی کا) غروب ہونا، ناکام ہونا، نامراد رہنا، کوئی نتیجہ نہ نکلنا، کچھ نہ بننا، ناکام رہنا، خراب ہو جانا۔ ـ في: میں ناکام ہونا۔ خَفْق: دھڑکن، ارتعاش، پھینٹنا، پھڑ پھڑانا، چاپ آہٹ، پاؤں، جوتے کا زمین پر ٹکا ہوا حصہ۔ خَفْقَة جمع خَفَقَات: دھڑکن ارتعاش، دستک، ٹک ٹک یا کھٹ کھٹ کی آواز، ٹک ٹک کھٹ کھٹ۔ خَفَقَان: دل کی دھڑکن، ارتعاش، دھڑکنا، مرتعش ہونا، پھڑ پھڑانا، پھڑ پھڑاہٹ۔ خَفَّاق: دھڑکنے والا، دھک دھک کرنے والا، پھڑکنے والا، لرزنے والا، تھرانے والا، پھڑ پھڑانے والا، لہرانے والا (جھنڈا)۔ مِخْفَقَة: متھنی یا ہونی (کریم یا انڈے پھینٹنے کی)۔ اِخْفَاق: ناکامی، ناکام، ٹائیں ٹائیں فش، مضحکہ خیز ناکامی۔ خافِق: دھک دھک کرنے والا، دھڑکنے والا (دل) لہرانے والا، پھڑ پھڑانے والا (جھنڈا)۔ الخَوافِق: اطراف (شمال، جنوب، مشرق مغرب) زمین کے چار علاقے۔ خافِقي: چونا، گارا، پلستر، عمارتوں کی بیرونی دیواروں پر لگایا جانے والا چھوٹے چھوٹے پتھروں پر مشتمل مادہ، ایک طرح کا استرکاری کا مسالہ۔

خفن: الخَفْن: پیٹ کا ڈھیلا پن۔ الخَيْفَان واحد خَيْفَانَة (ح): ٹڈی۔ الخُفَّان: ایک نرم پتھر۔ (عوام میں مستعمل ہے۔ فصیح عربی میں اسے الرَّخْفَه کہتے ہیں)۔

خفا: خَفَا ـُ خَفْوًا و خُفُوًّا البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ ـ الشيءُ: چیز کا ظاہر ہونا۔

خفي: ا۔ خَفِيَ ـِ خَفْيًا و خُفِيًّا الشيءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ خَفِيَ ـَ خَفَاءً و خُفْيَةً و خِفْيَةً: پوشیدہ ہونا صفت: خافٍ و خَفِيّ۔ خَفَّى الشيءَ: کو پوشیدہ کرنا، چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ اخفى الرجلُ: پوشیدہ ہونا، چھپنا۔ ـ الشيءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَخْفِ عنّا: جو ہمارے متعلق پوچھے اس سے ہماری خبر مخفی رکھو۔ تَخَفَّى و اِسْتَخْفَى: پوشیدہ ہونا، چھپنا۔ اِخْتَفَى من فلان: سے چھپنا۔ الخفاء (مص): پوشیدگی، چھپنا۔ (کہا جاتا ہے: بَرِحَ الخَفَاءُ: معاملہ ظاہر ہو گیا)۔ جمع اَخْفِيَة: پردہ، چادر جو لباس کو چھپائے، پوشیدہ چیز۔ اَخْفِيَةُ الكرى: آنکھیں۔ ـ الزهرة: کلی کے غلاف۔ الخَفِيّ: لوگوں سے کنارہ کش ہونے والا، مخفی جگہ رہنے والا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ خَفِيُّ البطن: پچکے ہوئے پیٹ والا۔ الخَفِيَّة: الخَفِيّ کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے: به خَفِيَّةٌ: اس پر کچھ دیوانگی کا اثر ہے۔ جمع خَفَايا و خَفِيَّات: گنجان جھاڑی۔ الخافي و الخافِياء: جنّ الخافِيَة: الخافي کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے۔ ارض خافية: جنوں والی زمین۔ جمع خَوافٍ: پوشیدہ چیز۔ الخَوافِي: پرندے کے بازو میں چھپے ہوئے پر۔ ضرب المثل ہے: ليس القوادمُ كالخوافي: بازو کے اگلے پر چھوٹے پروں کی مانند

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نہیں ہوتے۔ قوادم بازو کے اگلے پر جو بڑے ہوتے ہیں۔ المُختفِي (فا): کفن چور۔

۲۔خفَی ـِ خَفیًا و خُفِیًّا الشيءَ: کو ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے: خفی المطرُ الفارَ: بارش نے چوہے کو بل سے باہر نکال دیا۔ اَخْفَی الشيءَ: کا سرپوش ہٹانا۔ اِختَفَی الشيءَ: کو ظاہر کرنا، نکالنا۔ البئرَ: کنواں کھودنا۔ الخَفِیَّۃ جمع خفَایَا و خَفِیَّات: پانی والا کنواں۔

○ خَفِيَ ـَ خَفَاءً: چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ علی: کو (حقیقت) معلوم نہ ہونا۔ ــ: غائب ہو جانا، چھپ جانا۔ لایَخْفَی اَنْ: یہ بات مشہور ہے کہ، جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ، یہ عیاں ہے کہ، یہ آشکارا ہے کہ، یہ واضح ہے کہ۔ لایَخفَی علیكَ: تم اچھی طرح جانتے ہو، تم (سے) بخوبی واقف ہو۔ خَفَی ـِ خَفْیًا ہ: کو چھپانا، پوشیدہ رکھنا، کو مخفی رکھنا۔ اَخْفَی ہ: کو چھپانا، پوشیدہ رکھنا، مخفی رکھنا۔ ــ ہ: کو چھپنے کی جگہ دینا، کو پناہ دینا، کو چھپانا۔ ــ ہ: کو مخفی رکھنا۔ ــ ہ علی/عن: کو سے چھپانا۔ اَخْفَی الصوتَ: آواز نیچی کرنا، پست کرنا، دھیمی آواز سے بولنا، باتیں کرنا۔ تَخَفَّی: چھپنا، نظر نہ آنا، اپنے آپ کو چھپانا، بھیس بدلنا۔ اِخْتَفَی: چھپنا، نظر نہ آنا، دفعۃً غائب ہونا، نظروں سے اوجھل ہونا، فضا میں تحلیل ہو جانا، پوشیدہ ہونا، نامعلوم ہونا، نہ ہونا، ناکافی ہونا۔ اِختَفَی عن الانظار: نظروں سے اوجھل ہونا، چھپ جانا۔ اِستَخْفَی: چھپنا، نظر نہ آنا، چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ ہونا، ــ عن: کی نظروں سے پوشیدہ ہونا، کو نظر نہ آنا، کی نظروں سے اوجھل ہونا۔ خَفِيّ: چھپایا ہوا، پوشیدہ، نامعلوم، مخفی، ان دیکھا، غیر مرئی، جو نظر نہ آسکے، پر اسرار۔ خَفِيُّ الاسم: گمنام، غیر معروف۔ اَلْاَنوار الخَفِيَّۃ: بالواسطہ روشنیوں کا انتظام یا اثر۔ خُفْیَۃً و خِفْیَۃً: خفیہ طور پر، پر اسرار طور پر، پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر۔ خُفْیَۃً عنہ: کے علم کے بغیر، کی اطلاع یا واقفیت کے بغیر۔ خَفِیَّۃ جمع خَفَایَا: راز، بھید، خفیہ معاملہ۔ خَفَاء: پوشیدگی، پردہ، رازداری، پردہ پوشی۔ في الخفاء: پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر، پر اسرار طور پر، مخفی طور پر۔ لاخَفَاءَ في اَنَّ: یہ بالکل واضح ہے کہ، یہ ظاہر ہے کہ۔ اِخْفَاء: اخفاء، چھپانا، پردہ داری، رازداری، پوشیدگی، آواز کی پستی۔ تَخَفٍّ: بھیس، بہروپ، سوانگ۔ اِختِفَاء: گمشدگی، نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ خافٍ: پوشیدہ، چھپا ہوا، مخفی، غیر معلوم، ان دیکھا، غیر مرئی۔ خَافِیَۃ جمع خَوَافٍ: راز، بھید جمع الخوافي: جھاڑی جنگل، پچھلے پر۔ مَخْفِیّ: پوشیدہ، چھپا ہوا۔ مُتَخَفٍّ: بھیس میں، چھپا ہوا۔ مُخْتَفٍ: پوشیدہ، چھپا ہوا، مخفی، خفیہ، چوری چوری، چوری چھپے، نظروں سے اوجھل، فضا میں تحلیل ہونے والا۔ مُخْتَفًی: چھپنے کی جگہ۔

خق: خَقَّ ـِ خَقًّا و خَقَقًا و خَقِیقَاتِ القِدرُ: ہانڈی کا جوش کھانا اور سنسنانا۔

۲۔ خَقَّ ـُ خَقًّا و خَقَقًا و خَقیقَاتِ البَکرۃُ: چرخی کے سوراخ کا فراخ ہونا۔ اور محور سے ادھر ادھر ہونا۔ ــ السیلُ في الارض: سیلاب کا زمین میں گہرا گڑھا کر دینا۔ اَخَقَّتِ البَکَرۃُ: چرخی کے سوراخ کا فراخ ہونا۔ الخَقّ جمع اَخْقَاق و خُقُوق والاُخْقُوق والإخْقِيق جمع اَخَاقِيق: زمینی شگاف، خشک تالاب۔

خقن: خاقان جمع خواقین: ہر بادشاہ کا نام اور اسم معرفہ۔ کہا جاتا ہے: خَقَّنَ القومُ علی انفسہم: عوام نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔

○ خاقان: حاکم، سب سے بڑا سردار، فرمانروا، بادشاہ، شہنشاہ۔

خلّ: ۱۔خَلَّ ـِ خَلًّا و خُلُولًا لحمُہُ: کے گوشت کا دبلا اور کم ہونا۔ اِخْتَلَّ لحمُہُ: دبلا ہونے کی وجہ سے کسی کے گوشت کا کم ہونا۔ الخَلّ جمع اَخُلّ و خِلال: دبلے جسم والا، لاغر، موٹا۔ الخَلَّۃ: ہلکی پھلکی عورت۔ الخَلِیل: لاغر بدن والا، نحیف الجسم۔

۲۔ خَلَّ ـُ خَلًّا الشيءَ: کسی چیز میں سوراخ کرنا۔ الفصیلَ: اونٹ کے بچے کی زبان کو چیر کر دودھ سے روکنے کے لئے لکڑی ڈالنا۔ خَلَّلَ بینہما: کے درمیان جگہ کشادہ کرنا۔ ــ الاسنانَ: دانتوں میں خلال کرنا، دو دانتوں کے درمیان سے کھانے کے ریزے نکالنا۔ تَخَلَّلَ القومَ: قوم میں مل جانا، شامل ہو جانا۔ ــ الرجلُ: خلال کرنا۔ ــ الشيءُ فیہ: میں چیز کا گھسنا، نفوذ کرنا۔ ــ ہ بالرمح: کو پے در پے نیزہ مارنا۔ الخَلّ جمع اَخُلّ و خِلال: کپڑے کی پھٹن، شگاف، ریگستانی راستہ۔ الخَلَل جمع خِلال: دو چیزوں کے درمیان شگاف، رائے میں پراگندگی اور انتشار۔ الخِلَل واحد خِلّۃ: دانتوں میں کھانے کے بقیہ ریزے۔ کہا جاتا ہے: ھو خِلَلُ القوم: وہ قوم کے درمیان ہے۔ الخَلَّۃ جمع خِلال و خَلَل: سوراخ۔ الخِلال جمع اَخِلَّۃ: سوراخ کرنے کا آلہ، لکڑی جو اونٹ کے بچے کی زبان میں لگائی جاتی ہے تاکہ وہ دودھ نہ پی سکے۔ ــ والخُلالۃ: دانتوں کا خلال، دانتوں میں پھنسے ہوئے خوراک کے ریزے۔ خِلالُ الدیار: ملک کا اردگرد، گھروں کے درمیان، کہا جاتا ہے: ھو خِلالَھم: وہ ان کے درمیان ہے۔ شيءٌ خلیلٌ: چھدی ہوئی چیز۔

۳۔ خَلَّ ـُ خَلًّا في دعائہ: اپنی دعا میں خاص ہونا (عام دعا نہ کرنا) خَلَّلَ في دعائہ: اپنی دعا میں خاص ہونا۔ تَخَلَّلَ المطرُ: بارش کا خاص ہونا (یعنی کسی خاص جگہ پر برسنا)۔

۴۔ خَلَّ ـُ خَلًّا الیہ: کا محتاج ہونا۔ اَخَلَّ: محتاج ہونا۔ ــ ہُ اللہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو مفلس و محتاج کرنا۔ اُخِلَّ بالرجلِ: محتاج ہونا۔ اِختَلَّ الیہ: کا محتاج ہونا۔ الخَلَّۃ جمع خِلال و خَلَل: حاجت، مفلسی۔ الخَلِیل: مفلس، غریب۔ الاَخَلّ: مفلس، غریب، کسی دوسرے سے زیادہ مفلس۔ رجلٌ مُخَلٌّ: مفلس آدمی۔

۵۔ خَلَّلَ العصیرُ: رس کا ترش ہونا، خراب ہونا، سرکہ بننا۔ ــ العصیرَ: رس کو سرکہ بنانا۔ اِختَلَّ العصیرُ: رس کا سرکہ ہونا۔ ــ العصیرَ: رس کو سرکہ بنانا۔ ــ الرجلُ: سرکہ بنانا۔ الخَلّ جمع اَخُلّ و خِلال: سرکہ، کہا جاتا ہے مَالَہُ خَلٌّ ولا خمرٌ: اس کے پاس نہ تو کوئی اچھی چیز ہے نہ بری۔ لَسْتُ من ھذا الامر في خَلٍّ و لا خمرٍ: مجھے اس معاملہ کے نہ تو خیر سے کوئی مطلب ہے اور نہ شر سے کوئی کام۔ اُمُّ الخَلّ: شراب۔ الخَلَّۃ جمع خِلال و خَلَل: تھوڑا سرکہ، تھوڑی کھٹی شراب۔ الخَلَّال: سرکہ بنانے والا، سرکہ فروش۔

۶۔ خَالَّ مُخَالَّۃً و خِلالًا و خَلَالًا ہ: سے دوستی کرنا، بھائی بندی کرنا۔ تَخَالُّوا: آپس میں دوستی کرنا۔ الخِلّ: دوستی۔ کہا جاتا ہے۔ انہ لکریمُ الخِلّ: وہ شریف دل دوست ہے۔ ــ والخِلّ مونث خِلّ و خُلَّۃ جمع اَخلال: گہرا دوست۔ الخُلَّۃ: دوستی، دوست (واحد تثنیہ مذکر مونث جمع سب کے لئے) (جیسے ھو وھی و ھن خلتي: وہ مرد وہ عورت وہ عورتیں میری دوست ہیں) بیکلی، بیوی۔ الخَلَّۃ جمع خِلَل و خِلال: دوستی، بھائی بندی۔ الخَلِیل جمع اَخِلّاء و خُلّان مونث خلیلۃ جمع خلیلات و خَلائِل: خاص دوست۔ الخَلالَۃ و الخِلالۃ و الخُلالۃ: پکی دوستی۔

۷۔ اَخَلَّ بالشيءِ: میں کوتاہی کرنا، کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ ــ بمرکزہ: اپنی جگہ چھوڑ دینا۔ ــ بقومہ: قوم کو چھوڑ کر چلا جانا، غائب ہو جانا۔ ــ بالامر: کو

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بگاڑنا، برے طریقے سے انجام دینا۔ بالرجل: کو اس کا پورا حق نہ دینا۔ الوالي بالثغور: حاکم کا سرحدوں پر لشکر کم کر دینا۔ اِخْتَلَّ الامْر: سست اور خراب ہونا۔ عقلُهُ: کی عقل خراب ہو جانا۔ الخَلَل جمع خِلال: سستی، خرابی۔

۸۔ الخَلّ جمع اَخُلّ و خِلال: بوسیدہ کپڑا۔ الخُلّة جمع خُلَل: گھاس جس میں مٹھاس ہو، عادت، خصلت۔ الخَلّة جمع خِلال و خِلَل: خصلت، عادت۔ الخِلّة جمع خِلَل و خِلال: چمڑے سے منڈھا ہوا تلوار کا میان، پر نقش دار چمڑا۔

۹۔ حَلْحَل العظم: ہڈی کا گوشت اتارنا۔

۱۰۔ خَلْخَل المراۃَ: عورت کو پازیب پہنانا۔ تَخَلْخَلَت المراۃُ: عورت کا پازیب پہننا۔ الخَلْخال جمع خَلاخِيل و الخَلخَل والخُلْخُل جمع خَلاخِل: پازیب۔ المُخَلْخَل: پنڈلی پر پازیب پہننے کی جگہ۔

۱۱۔ تَخَلْخَلَ الشيءُ: چیز کا پیوستہ اجزا والا نہ ہونا۔ من مکانه: اپنی جگہ سے ہلنا۔

۱۲۔ تَخَلْخَل الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ ثوبٌ خَلْخالٌ و خُلْخُلٌ: بوسیدہ کپڑا۔

○ خَلَّ ـُ خَلاًّ ہ: کو چھیدنا، چیرنا۔ خَلَّ: کھٹا ہو جانا، ترش ہونا۔ ـ ہ: کو ترش کرنا، کھٹا کرنا، کو ترشہ بنانا، تیزاب بنانا کا اچار ڈالنا، کو نمک لگانا، کو نمک سے درست کرنا، (دانتوں) میں خلال کرنا، میں انگلیاں پھیرنا، (بالوں، داڑھی) میں کنگھی کرنا۔ مانگ نکالنا، (خواہ انگلیوں سے)۔ خَالَّ ہ: سے دوست کا سا سلوک کرنا۔ اَخَلَّ ب: کی قانون شکنی کرنا، کی خلاف ورزی کرنا، کو توڑنا، کی حد سے بڑھنا، (کسی قاعدہ، رسم وغیرہ) کی بے ادبی، بے حرمتی یا خلاف ورزی کرنا، یا کو توڑنا، (کسی معاہدے) کو پورا کرنے میں ناکام رہنا۔ ـ ب: کو چھوڑ دینا، سے الگ ہو جانا کا ساتھ چھوڑ دینا، کو بیوفائی سے چھوڑ دینا، سے دغا کرنا، دست کش ہونا، کو نقصان پہنچانا، اوندھا کرنا، الٹ دینا۔ پریشان کر دینا۔ تَخَلَّلَ ہ: کے درمیان میں ہونا، آنا یا پڑنا، کے بیچ میں ہونا، کے اثنا یا دوران میں ہونا، کے درمیان واقع ہونا۔ رکھا ہونا یا رکھا جانا، میں بھر جانا، سرایت کرنا، رچ بس جانا، پھیل جانا سے میل جول رکھنا، سے مل کر ایک ہو جانا، سے ملنا، باہم ملنا۔ اِخْتَلَّ: ناقص ہونا یا ہو جانا، بے ترتیب ہونا، غلط ہونا، نامکمل ہونا، الٹ پلٹ ہونا غیر متوازن ہونا (نظام کا) درہم برہم ہونا۔ اِخْتَلَّت الشُروطُ: شرائط کا پورا نہ ہونا۔ اِختلَّ توازنُه: اپنا توازن کھو دینا، غیر متوازن ہونا۔ اِختَلَّ عقلهُ: دماغی طور پر پراگندہ ہونا، خلل کا شکار ہونا، پاگل ہونا، دیوانہ ہونا۔ خَلّ: سرکہ۔ خِلّ و خُلّ جمع اَخْلال: دوست، دلی دوست، یار غار۔ خَلَل جمع خِلال: درز، شگاف چاک، درمیانی وقفہ، فاصلہ، خلا، فتق ناقص اور غیر متوازن حالت، عدم توازن، عیب، ادھورا پن، کمی، خامی، غلطی، خطاء، قصور، خرابی، نقص، کمزوری، خلل، گڑبڑ، ہلچل، برہمی، الٹ پلٹ، بے ضابطگی، فساد نقصان۔ خِلالَ: کے دوران میں، میں، کے درمیان، کے مابین۔ في خِلالِ: اور في خَلَل: کے دوران میں کے اندر کے اندر اندر، کے دیئے ہوئے عرصہ میں۔ في خِلالِ ذلك: اس دوران، اس اثنا میں۔ مِن خِلالِ: کے آر پار، ایک سرے سے دوسرے تک، کے درمیان سے، اندر سے، کی بنا پر، کے باعث، کی سند سے، سے (پہچاننے کے لئے)۔ خَلّة: ضرورت، حاجت، احتیاج، کمی، (جمع خلال): خاصہ، وصف، صفت، خصوصیت، طبیعت، مزاج، افتاد طبع۔ خُلّة جمع خُلَل: دوستی۔ خِلال جمع اَخِلّة: بورنگ کرنے یا سوراخ کرنے کا آلہ، میخ، سیخ (نیز خلالة جمع خلالات) خلال (دانتوں سے خوراک کے ریزے نکالنے والا)۔ خَلِيل جمع اَخِلّاء و خُلّان: دوست، دلی دوست، یار غار، عاشق۔ الخليل: اردنی فلسطین کا ایک شہر جسے Hebron کہا جاتا ہے۔ خَلِيلُ الله: حضرت ابراہیمؑ کا لقب۔ خَلِيلَة جمع خليلات: سہیلی، گرل یا وومین فرینڈ، محبوبہ، آشنا، داشتہ۔ اُمُّ الخلول: ایک دریائی صدفی مچھلی۔ اِخْلال جمع اخلالات: خلاف ورزی (قانون، معاہدہ وغیرہ کی) جرم، گڑبڑ، نقصان مع عدم الاخلال ب: پر بیجا اثر ڈالے بغیر، کو ضرر پہنچائے بغیر۔ اِخْتِلال: نقص، کوتاہی، کمی، کمزوری، خامی، خرابی، ادھورا پن، ناتمالی، خستہ حالی، بوسیدگی، بگاڑ، ابتری، زوال، فساد، خلل، خلل اندازی، ہنگامہ، شورش، انتشار، پراگندگی، بے ترتیبی، ابتری، بدنظمی، فتنہ، فساد، افراتفری، الجھن۔ مُخَلَّل: اچار ڈالا ہوا، نمک ڈالا ہوا، نمک مرچ ملا، (جمع مُخَلَّلات): اچار، چٹنی مربہ، تیزابی چیز، اچاری سبزیاں۔ مُخِلّ: شرمناک، رسوائی کا موجب۔ مُخِلّ بالآداب: غیر اخلاقی، فحش، ناشائستہ، نامناسب، ناموزوں۔

خلب: ۱۔ خَلَبَ ـِ خَلْبًاهُ بظفره: کو ناخن سے خراش لگانا، زخمی کرنا۔ السبعُ الفريسةَ: درندے کا اپنی شکار کو چنگل سے پکڑنا۔ اِسْتَخْلَبَهُ بظفره: کو ناخن سے خراش لگانا، زخمی کرنا۔ المِخْلَب جمع اَخْلاب: ناخن خصوصاً درندہ کا۔ المِخْلَب جمع مَخالِب: ناخن (خصوصاً درندہ کا) درانتی۔

۲۔ خَلَبَ ـُ خَلْبًا الفتى: جوان کے دل کو موہ لینا، فتنہ میں مبتلا کرنا۔ ـُ خَلْبًا و خِلابًا و خِلابَةً و خالَبَ مُخالَبَةً و خَلَّبَ و اِخْتَلَبَ ہُ: کو نرم کلامی سے دھوکا دینا۔ صفت خالِب و خَلُوب و خَلّاب و خَلَبوت مؤنث خالِبَة و خَلِبَة و خَلُوب و خَلّابة و خَلَبوت۔ الخِلْب جمع اَخْلاب: دل کے اوپر کی جھلی، جگر کے اوپر کی جھلی۔ الخُلَّب: بے بارش کا بادل۔ البرقُ الخُلَّبُ و برق الخُلَّب: بے بارش کے بادل کی بجلی۔ جو وعدہ کر کے پورا نہ کرے اسے کہا جاتا ہے انما انت كبرقِ خُلَّب۔ الخُلْبُوب: فریبی، دھوکا دینے والا۔ الخِلِّيبَى: فریب، دھوکا۔

۳۔ خَلِبَ ـَ خَلَبًا المراۃُ: عورت کا بیوقوف ہونا۔ الخَلْباء: بیوقوف عورت۔

۴۔ اَخْلَبَ الماءُ: پانی کا کیچڑ والا ہونا صفت مُخْلِب۔ الخُلْب و الخُلُب: سیاہ کیچڑ۔ الخُلْب والخُلُب: کھجور کے درخت کی چھال اور اس کی بٹی ہوئی رسی، کھجور کے درخت کا گودا۔ الخِلْب جمع اَخْلاب: انگور کی بیل کے پتے۔ المُخَلَّب من الثياب: بہت نقش و نگار والا کپڑا۔

۶۔ خَلْبَسَ ہُ او خَلْبَسَ قَلْبَهُ: کو یا کے دل کو فریفتہ کرنا۔ الخُلابِس: نرم بات۔ و الخَلابِس: باطل اور جھوٹی باتیں۔ الخَلابِيس: باطل اور جھوٹی باتیں، کمینے، رذیل لوگ۔

○ خَلَبَ ـُ خَلْبًا ہ: کو پنجوں، ناخنوں یا چنگل سے پکڑنا، چنگل میں لینا، مٹھی میں لینا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا۔ ـُ خِلابَةً ہ: کو پھسلانا، دھوکا دینا۔ جھانسا دینا، سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے مطلب براری کرنا کی چاپلوسی کرنا خوشامد کرنا، کو فریب دینا نازنخروں سے رجھانا، بہکانا، دم دلاسا دینا، راضی کرنا میٹھی باتوں سے ورغلانا۔ ـ ہ او عَقْلَهُ: کو بہکانا، پھسلانا، ورغلانا، پٹی پڑھانا، سبز باغ دکھانا فریب دینا، گمراہ کرنا بہلانا، فریفتہ کرنا، موہ لینا، پر چار کرنا، کو مفتون کرنا، گرویدہ کرنا، مسحور کرنا، کا دل لے لینا، کو عاشق بنا لینا۔ خالَبَ ہ: کو پھسلانا، دھوکا دینا، جھانسا دینا، کی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، کو فریب دینا نازنخروں سے رجھانا، بہکانا، راضی کرنا، ورغلانہ، فریفتہ کرنا موہ لینا، پر جادو کرنا، کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مفتون کرنا، گرویدہ کرنا، مسحور کرنا کا دل لے لینا، کو عاشق بنالینا۔اِخْتَلَبَ ہ: کو پنجوں، ناخنوں یا چنگل سے پکڑنا، چنگل میں لینا، مٹھی میں لینا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا۔–ہ: کی چاپلوسی کرنا، خوش آمد کرنا کو پھسلانا، بہکانا، ورغلانہ، پٹی پڑھانا، سبز باغ دکھانا فریب دینا، گمراہ کرنا، فریفتہ کرنا، موہ لینا، پر جادو کرنا کو مفتون کرنا، مسحور کرنا، گرویدہ کرنا، کا دل لے لینا، کو عاشق بنالینا۔خِلب جمع اَخْلاب: ناخن، پنجہ، چنگل، برقٌ خُلَّبٌ و برقُ خُلَّب: بارش کے بغیر کوندہ، برق، بجلی، مایوس کن اور غلط فہمی دور کرنے والا معاملہ۔خُلّب و خُلَّب من برق: سراب، وسوسہ، وہم، خیال خام، مغالطہ، دھوکا فریب، فریب خیال، فریب نظر، خیالی پیکر۔فَشَكٌ خُلَّبِيّ: خالی کارتوس (جمع)۔خَلّاب: متوجہ کن، فریفتہ کن، دل موہ لینے والا مسحور کن، گرویدہ کن، دلکش، دلربا، دلفریب دلآویز، خوش ادا، ترغیب دہ، اکسانے والا رغبت دلانے والا، ورغلانے والا، ترغیب دلانے والا پھسلانے والا، متفنی، فریبی، دغاباز، مکار، حیلہ گر، گمراہ کن، فریب دہ، مانوس کن پرفریب، وہمی، بے اصل، غیر حقیقی، غلط، جھوٹا۔خَالِب: بمعنی خَلّاب۔ خِلابَة: دلفریب ادائیں، دلآویز انداز، کشش، دلکشی، دلفریبی، جادو سحر، افسون، دلربائی، دلبری، دل آویزی، حسن و جمال۔

مِخْلَب مَخَالِب: ناخن، پنجہ، چنگل۔

○تَخَلْبَصَ: بھانڈ جیسا رویہ اختیار کرنا۔خَلْبُوص جمع خَلابیص و خَلَابصة: بھانڈ، مسخرا، نقال۔

خلج: ۱۔خَلَجَ ـُ خَلْجًاهُ: کو کھینچنا، کھینچ کر نکالنا۔–ہُ الامرُ: کام کا کسی کو مشغول کرنا۔کہا جاتا ہے خلجتهُ امورُ الدنیا: دنیا کے بکھیڑوں نے اس کو پھانس لیا۔

خَلِجَ ـَ خَلَجًا (طب): تکان یا چلنے سے ہڈیوں کا درد کرنا۔خَالَجَ قلبَهٗ امرٌ: امر کا دل کو فکر و سوچ میں الجھا دینا۔تَخَلَّجَ: کبھی دائیں کبھی بائیں جھکنا، ہلنا، لوٹ پوٹ ہونا ہلنا، جھولنا۔–الشيءَ: کو کھینچنا، نکالنا۔تَخَالَجَتْهُ الهمومُ: کو غموں کا آگے پیچھے کھینچنا۔کہا جاتا ہے تَخَالَجَ في صدری شيءٌ: میرے دل میں کچھ خلجان ہوا۔اِخْتَلَجَ الشيءَ: کو نکالنا، کھینچنا۔–الشيءُ في صدرہ: کسی چیز کا کسی کو مشغول کرنا، آگے پیچھے کھینچنا۔اُخْتُلِجَ من بينهم: لوگوں میں سے کسی کا مرنا۔الخَالِج (فا): موت۔الخَلِيج جمع خُلُجَان و خُلُج: رسی۔المَخْلُوج: مشکوک النسب لوگ۔الأَخْلَج: رسی۔

۲۔خَلَجَ ـُ خَلْجًا الشيءَ: کو ہلانا، حرکت دینا۔–ہُ بعينه: کو آنکھ مارنا، آنکھ سے اشارہ کرنا۔–خَلْجًا و خُلُوجًا و خَلَجَانًا العينُ: آنکھ کا پھڑکنا۔اَخْلَجَ حَاجِبَيه: ابروؤں کو مٹکانا۔تَخَلَّجَ: مضطرب ہونا، حرکت کرنا۔اِخْتَلَجَ: جھڑ جانا۔–تِ العينُ: پلکوں کا خود بخود پھڑکنا۔الخُلُج: کانپنے والے بدن کے لوگ۔

۳۔خَلَجَ ـُ خَلْجًاهُ: کو تلوار سے مارنا۔

۴۔خَلَجَ ـُ خَلْجًا الولدَ: بچے کا دودھ چھڑانا۔اِختلج الولدَ: بچے کا دودھ چھڑانا۔

۵۔خَلِجَ ـَ خَلَجًا الشيءُ: بگڑنا، خراب ہونا۔

۶۔الخليج جمع خُلْجَان و خُلُج: چھوٹی کشتی۔ندی۔–من البحر: کھاڑی۔خليجا النهر: دریا کے دونوں کنارے۔الاخُلِيج من الخيل: تیز رفتار گھوڑا۔(ن): ایک قسم کی گھاس۔

○خَلَجَ ـِ خَلْجًا و خَالَجَ ہ: کے ذہن پر ہونا، (پریشانیوں شکوک وشبہات وغیرہ کا)، کسی کو یا اس کے دل کو پریشان کرنا کسی خیال میں محو کر دینا، بدگمان کر دینا (احساس کا) کسی میں سرایت کرنا، رچ بس جانا، خَالَجَ قَلْبَهُ: کے دل میں سب سے زیادہ اہم حیثیت کا حامل ہونا۔ تَخَلَّجَ: ہلنا، ہلچل پیدا ہونا۔لوٹ پوٹ ہونا، جھولنا۔اِخْتَلَجَ: کانپنا، ہلنا، کپکپی طاری ہونا، کپ کپانا کپکپی لگنا، (آنکھ، جسم، عضو کا) پھڑکنا۔–ہ في: (احساس کا) دل یا کسی چیز میں روح پھونکنا، کو متحرک کرنا، جوش میں لانا، میں روح پھونکنا، جوش پیدا کرنا، سرائیت کرنا، رچ بس جانا، پھیل جانا، پر قابض ہونا۔اِخْتَلَجَ غَمًّا: (دل کا) غم سے بھر جانا۔خَلْجة جمع خَلَجَات: جذبہ، احساس، جوش، ولولہ، جذباتیت، ضمیر کی خلش، شک شبہ، بے اعتمادی۔خَلِيج جمع خَلُج و خُلْجَان: خلیج، کھاڑی، نہر۔الخليج: قاہرہ کی قدیم شہری نہر کا نام جو متروک ہونے کے بعد انیسویں صدی کے اختتام پر ہموار کر دی گئی۔الخليج الفارسي: خلیج فارس۔خِلَاج: شک، بے اعتمادی، شک شبہ، پس و پیش، جھجک، خدشہ، اندیشہ، وسوسہ ضمیر کی خلش۔اِخْتِلَاجَة: کپکپی، تشنج، ہچکولہ، دھچکا، پھڑک، لرزہ، تھرتھراہٹ، رعشہ۔خَالِجَة جمع خَوَالِج: جذبہ، احساس جوش ولولہ، پس و پیش، جھجک، احتیاط، ضمیر کی خلش اندیشہ، وسوسہ، خدشہ، خیال۔

خلد: ۱۔خَلَدَ ـُ خُلُودًا: ہمیشہ رہنا۔–خَلْدًا و خُلُودًا: زیادہ عمر ہونے کے باوجود کسی کو بڑھاپا اور کمزوری آنا، صفت خَالِد و مُخْلِد

مُخَلَّد۔ خَلَّدَ و اَخْلَدَهُ: کو ہمیشہ کے لئے رکھنا۔ الخُلْد: ہیشگی، دوام، بقاء۔الخَلَدَ: ہمیشہ رہنے والا۔الخَالِدَة (ن): آرائش کے لئے لگایا جانے والا ایک پودہ جس کے پھول عرصہ تک رہتے ہیں۔ الخَوَالِد: پتھر، پہاڑ۔

۲۔خَلَدَ ـُ خَلْدًا و خُلودًا الی المکان و بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔–الى الأرض: زمین سے چمٹنا۔خَلَّدَ الی المکان و بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔اَخْلَدَ بصاحِبِهِ: کے ساتھ رہنا۔ –اليه: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔–الی المکان و بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔

۳۔الخُلْد جمع خِلَدَة: کنگن، بالی۔جمع مناجذ (غیر لفظ سے) (ح): چھچھوندر۔خُلْدُ الماء (ح): زمین اور پانی کے کترنے والے جانور کی ایک قسم۔ الخَلَد: مزاج، دل۔کہا جاتا ہے لم يَدُر هذا الامُر في خَلَدِي: یہ بات میرے دل میں نہیں آئی۔الخَلَدَة: کنگن، بالی۔ابُو خالد: کتا (کتے کی کنیت)۔

○ خَلَدَ ـُ خُلُودًا: ہمیشہ کے لئے رہنا، قائم، باقی یا زندہ رہنا، دائمی ہونا، ابدی ہونا، لازوال ہونا لافانی ہونا، زندہ جاوید ہونا، امٹ ہونا، امر ہونا، جاودانی ہونا۔ –الی/ب: میں یا کے پاس ہمیشہ کے لئے اقامت گزین ہونا۔–الی/ب/فی: کسی جگہ رہنا، قیام کرنا۔ خلد الی الراحة: آرام کرنا، ستانا۔خلد الی النوم: سونے کے لئے لیٹنا۔خَلَّد ہ: کو ابدی، دائمی، امٹ یا لازوال، بنانا، باقی رکھنا، قائم رکھنا۔ –ہ: کو لافانی، ابدی، امٹ یا زندہ جاوید بنانا، کو ابدی شہرت کا مالک بنانا۔ہ: (یادداشت حافظہ کا) کو امٹ بنانا، ناقابل فراموش بنانا۔–ب: کسی جگہ میں رہنا، قیام کرنا، رہنا، کے چکر کاٹتے رہنا۔–: بہت بوڑھا ہو جانا، لمبی زندگی سے متمتع ہونا، طویل العمر ہونا۔ اَخْلَدَ ہ/ ہ: کو ابدی، دائمی یا امٹ بنانا، ابدی زندگی عطا کرنا، کو ابدی شہرت کا مالک بنانا، لافانی یا زندہ، جاوید بنانا۔–ہ: کو باقی رکھنا، قائم رکھنا، مستقل بنانا۔ –اِلی/ب: کسی جگہ رہنا، قیام کرنا کے چکر کاٹتے رہنا۔–اِلی: کو کرنے کا خواہاں یا کو کرنے کو تیار ہونا، کی طرف مائل ہونا، میلان یا رجحان رکھنا، کی طرف میلان ہونا۔تَخَلَّدَ: ابدی، لافانی، امٹ ہونا، باقی ہونا، قائم ہونا، مستقل ہونا، طویل ہونا یا ہو جانا، پائدار ہونا، دائمی ہونا، دوامی ہونا۔خُلْد: لامحدود و لامتناہی مدت، دوران، نہ ختم ہونے والا وقت، دوام، ہیشگی،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ابد، ابدیت، بقائے دوام، بڑا لمبا عرصہ، طویل مدت دارُ الخُلد: بہشت، جنت، مستقبل، اخروی زندگی۔ خُلد: چھچھوندر۔ خَلَد جمع اَخلاد: ذہن، دل، مزاج، نفس، روح جان، خَلَد لامحدود لامتناہی مدت، ختم نہ ہونے والا وقت، مداومت، بقا، ثبات، ابدیت، دوام، ہمیشگی، ابدی زندگی، حیات جاودانی، بقائے دوام پائداری، رہنا، قیام کرنا۔ تخلید استمرار، دوام، ابدیت، حیات ابدی بخشنا، زندہ جاوید کرنا، ابدی، دائمی امٹ، لازوال بنانا، باقی رکھنا، قائم رکھنا۔ خالد۔ لافانی، امر، لازوال، قائم، دائم، زندہ جاوید، امٹ، پائدار ابدی، لایزال، جاوید، غیر فانی، دائمی، دوامی، استمراری متواتر، مسلسل، ناقابل فراموش، مشہور معروف حوالد پہاڑ (جمع) الحرائر الخالدات جزائر کنیری۔ مُخلِد الی (کا) خواہاں، (کے لئے) تیار، (کی طرف) مائل، (کی طرف) رجحان رکھنے والا۔

خلر　الخُلّر (ن) ایک پودہ۔ بعض کے نزد، لوبیا، ماش۔

خلس　ا۔ خَلَسَ ـُ خَلسًا و خِلِّیسَی الشيءَ کو چھپٹا مار کر چھین لے جانا۔ خالَسَ مُخالَسَةً ہُ کو جلدی کرنا کہا جاتا ہے: خالَسَہُ النظرَ: پر دزدیدہ اور اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا۔ تخالَسَ القومُ الشيءَ کو ایک دوسرے سے چھیننا۔ کہا جاتا ہے: هُما یتخالسان انفسهما: وہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پے ہیں۔ اِختلَسَ الشيءَ: کو دھوکے سے یا جھپٹا مار کر چھین لینا۔ الخُلْسَة جھپٹ۔ جھپٹی ہوئی چیز، مناسب موقع، فرصت، کہا جاتا ہے۔ الخُلْسَة سریعة الفوت بطیئة العَود: مناسب موقع اس شخص کے ہاتھ سے تیزی سے نکل جاتا ہے جو اس سے ٹھیک طور پر فائدہ نہ اٹھائے۔ اور دیر سے ہی دوبارہ ملتا ہے۔ الخَلِیس و الخُلّاس چوکنا بہادر۔

۲۔ اَخلَسَ الرأسُ: سر کے بالوں کا کچھ حصہ سفید ہونا صفت: خَلِس و خَلِیس و مُخلِس۔ -النبتُ: خشک اور تر گھاس کا ملا جلا ہونا۔ -تِ الارضُ: زمین کا سبزہ اگانا۔ الخِلاسيّ کالے اور گورے ماں باپ کا بیٹا۔

۳۔ اِختلَسَ القاریُ الحرکةَ: قاری کا حرکت کو پورا نہ پڑھنا۔ اس کے مقابل الاشباع ہے جو حرکت اس طرح پڑھتا ہے کہ وہ حرف مد ہو جاتا ہے۔

○ خَلَسَ ـِ خَلْسًا ہ: کو اچانک یا دھوکے سے لے لینا، چھوٹی (چیز کی) چوری کرنا، کو چرانا، کی چوری کرنا۔ خالَسَہُ النظرَ: پر اچٹتی نظر ڈالنا، دزدیدہ نظر ڈالنا۔

اِختلَسَ ہ: کو اچانک یا دھوکے سے لے لینا، چھوٹی (چیز کی) چوری کرنا، کو چرانا، کی چوری کرنا، کو جھوٹے بہانے یا چالبازی سے لینا، کو غبن کرنا، خورد برد کرنا، (گھنٹوں) کو پوشیدہ طور پر صرف کرنا۔ اِختلَسَ الحُطی الی: آخری لمحہ تک اوجھل رہ کر خاموشی سے کسی شخص یا چیز تک پہنچنا۔ اِختلَسَ النظرَ الی (فی): پر دزدیدہ اچٹتی نظر ڈالنا۔ خُلسَةً چوری چھپے، چپ چاپ، چھپ چھپا کر۔ خِلاسِی: یوریشی، یورپی اور حبشی مخلوط النسل کا۔ اِختلاس جمع اِختلاسات: غبن، خورد برد، خیانت۔ مُختلِس: خیانت کرنے، غبن کرنے والا۔ مُختلَس: چرایا ہوا، دھوکے سے یا اچانک لیا ہوا۔

خلص　ا۔ خَلَصَ ـُ خُلوصًا و خَلاصًا: خالص ہونا -الماءُ من الکدر: پانی کا صاف ہونا۔ خَلَّصَ الشيءَ: چیز کو صاف کرنا، آمیزش سے پاک کرنا، کا خلاصہ لینا۔ خالَصَ مُخالَصَةً ہُ فی العشرة او المودة: سے معاملہ میں صفائی برتنا، سے خالص دوستی کرنا۔ -الوُدَّ: سے خالص دوستی کرنا۔ أخلَصَ الشيءَ: کا خلاصہ نکالنا، کو چن لینا۔ -ہُ اللّٰہُ: کو عیوب سے خالی چننا۔ -الطاعةَ و فی الطاعة: اطاعت میں ریاکاری نہ کرنا۔ -لہ الحبَّ او القولَ: سے محبت یا بات کو کھوٹ سے خالی کرنا۔ تَخالَصَا: ایک دوسرے کے ساتھ صفائی کا برتاؤ کرنا، خالص دوستی کرنا۔ اِستَخلَصَہُ: کو چن لینا۔ -الشيءَ منہ: کو سے واپس لینا، حاصل کرنا۔ الخَلَص: ہر سفید شئے۔ الخِلص جمع خُلَصَاء و الخُلصان: یار، مخلص دوست۔ خُلصان مفرد اور جمع ہر دو کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هو خُلصانی و هم خُلصانی: وہ میرا مخلص دوست ہے۔ وہ میرے مخلص دوست ہیں۔ الخالِص (فا) جمع خُلَّص: بے کھوٹ، صاف رنگ۔ کہا جاتا ہے۔ هذا ثوبٌ خالِصٌ: یہ صاف (سفید) رنگ کا کپڑا ہے۔ الخالِصَة: خالص کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے۔ هو خالِصَتِي: وہ میرا یار ہے، مخلص دوست ہے۔ هذا لشيءُ خالِصَةٌ لك: یہ چیز تمہارے لئے خالص ہے۔ الخُلوص: کھجور سے تیار کی ہوئی رب، صاف گھی کے نیچے رہ جانے والی تلچھٹ۔ الخَلاص و الخِلاص: کھوٹ سے خالی (سونا، چاندی، مکھن وغیرہ) الخُلاصة و الخِلاصة: خالص گھی، پھر ہر چیز پر اس کا اطلاق ہونے لگا جو غیر کی آمیزش سے پاک ہو۔ خُلاصةُ الکلام: ماحصل (گفتگو کا)۔

الاِخلاص و الاخلاصة: تلچھٹ سے صاف کیا ہوا مکھن۔ کلمة الاخلاص: لا الٰہ الا اللّٰہ۔

۲۔ خَلَصَ ـُ خلوصًا و خَلاصًا من الهلاك: ہلاکت سے نجات پانا، محفوظ رہنا۔ خَلَّصَہُ من کذا: کو سے نجات دینا۔ تَخَلَّصَ منہ: سے نجات پانا۔ الخَلاص: نجات۔ (آپ کہتے ہیں: الخلاص من الاخطار: خطروں سے نجات۔ یوم الخَلاص: یوم نجات۔) اچھی آخرت کا حصول۔ ہم کہتے ہیں: الخلاص الابدیّ: اچھی ابدی آخرت۔ المُخلِّص: حضرت مسیح کا لقب بمعنی نجات دہندہ۔

۳۔ خَلَصَ ـُ خُلوصًا و خَلاصًا الی المکان و بالمکان: کسی جگہ پہنچنا۔ تَخَلَّصَ من کذا الی کذا: سے تک منتقل ہونا۔

۴۔ خَلَصَ ـُ خُلوصًا و خَلاصًا من القوم: لوگوں سے جدا ہونا۔ خَلِصَ ـَ خَلَصًا اللحمُ: گوشت میں ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ تَخَلَّصَ منہ: سے جدا ہونا۔

۵۔ خَلَّصَ الرجلَ: کو مثل چیز دینا۔

○ خَلَصَ ـُ خُلوصًا: خالص ہونا، آمیزش کے بغیر ہونا۔ -الی: کسی شخص کی ملک ہونا، کا رکن یا فرد ہونا، کا رکن یا فرد ہونا، کے پاس پہنچنا، آنا، کسی جگہ آنا۔ -خلاصًا من: سے آزاد ہونا یا بچ جانا، سے نجات پانا، چھٹکارا پانا، سے بچ جانا، بچ نکلنا۔ -نجات پانا، بخشا جانا، ختم ہونا، مکمل ہونا خَلَّصَ ہ: کو صاف کرنا، پاک کرنا، خالص بنانا، کی تصحیح کرنا (صورت حال) کو واضح کرنا۔ -ہ من: کو سے آزاد کرنا، چھٹکارا دلانا، نجات دینا، بچانا، (مسیحیوں کے نزدیک مسیح کا) بخشوانا، نجات دلانا۔ -علی: پر چنگی محصول ڈاک ادا کرنا۔ -علی البضائع: مال، سامان تجارت پر محصول ادا کرنا، سامان تجارت (محصول وغیرہ، ادا کر کے) چھڑانا۔ -ہ بل ادا کرنا، کو ختم کرنا۔ خَلَّصَ حقَّہُ: اپنا حق بحال کرنا، اپنے واجبات حاصل کرنا۔ خالَصَ ہ: کے ساتھ اخلاص برتنا، دیانتداری کرنا، کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا، سے حساب برابر لینا۔ اَخلَصَ ل ہ: کے لئے کچھ وقف کرنا، -ل: سے وفادار ہونا، کا جانثار ہونا، کا وفادار ہونا۔ اَخلَصَ لہ الحبَّ: سے سچی محبت کرنا۔ اَخلَصَ للہ دینَہُ: اللہ تعالیٰ کی دل اور اخلاص سے عبادت کرنا۔ تَخَلَّصَ من: سے چھٹکارا حاصل کرنا، سے آزاد ہونا، سے نجات حاصل کرنا، سے بچنا، محفوظ ہونا۔ تَخالَصَ: باہم، ایمانداری اور خلوص سے کام کرنا، برابر حساب

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لینا۔اِستَخلَص ہ من: کوسے نکالنا،زبردستی حاصل
کرنا،کاسے استخراج کرنا،استنباط کرنا،کوسے نقل کرنا،
کاسے اقتباس کرنا،انتخاب کرنا،کوکالب لباب کے طور
پر لینا،کوسے اخذ کرنا،کوسے حاصل کرنا ـــــ ہ: کو
دریافت کرنا،کاانکشاف کرنا،کومعلوم کرنا،کو چننا،منتخب
کرنا۔کی رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا اوراسے سے لینا۔
استخلص فائدۃ من سے فائدہ اٹھانا۔استخلص
منه وعداً: سے وعدہ لینا۔خَلاص: آزادی،نجات،
بریت،خلاصی،چھٹکارا،رہائی۔— من: سے رہائی،
نجات،رست گاری،مکتی،(عیسائی عقیدہ کے مطابق)
خلاصی،کفارہ،چھٹکارا،شفاعت،ادائیگی،بل کی بے
باقی،ادائیگی رسید،آنول،نال،وہ جھلی جس کے اندر
بچہ رحم میں لپٹا رہتا ہے۔خلاصَة جمع خلاصات
اقتباس،انتخاب نچوڑ،جوہر،روح،اصل،لب لباب،
خلاصہ،ملخص،ماحصل،اہم نکات،تلخیص،خاکہ مختصر
صورت۔خلاصة نهائية: پیش کردہ شہادت کا
خلاصہ۔خلاصة عطرية: خوشبوکاست۔
والخلاصة: مختصراً ایک لفظ میں۔خَلیص جمع
خُلَصَاء: خالص،صاف،بےکھوٹ،بےملاوٹ،
مخلص،وفادار،وفادار پیرو،حامی۔خُلُوص: صفائی،
پاکیزگی،اخلاص،سچائی،کھرا پن،صاف دلی،اخلاص
مندی،راست بازی۔خَلَّاص: ٹیکس جمع کرنے والا۔
ٹیکس کلکٹر۔مَخلَص: محفوظ جگہ،جائے پناہ،فرار،
رہائی،نجات،مکتی،بریت،خلاصی،چھٹکارا۔
تخلیص: صاف کرنا،پاک کرنا،خالص بنانا،چھانٹ
چھانٹا،معطر کرنا،توضیح،وضاحت،آزادی،مخلصی،
رہائی،خلاصی،سلجھاؤ،تربیت،مکتی،ادائیگی بے باقی۔
— علی: پرڈاک محصول کی پیشگی ادائیگی۔— علی
البضائع: سامان تجارت پر محصول،کسٹم وغیرہ کی
ادائیگی اور(ادائیگی کے بعد)مال چھڑانا جسے کلیرنس
کہتے ہیں۔تخلیص البضائع بھی کہاجاتا ہے۔
مُخالَصَة جمع مُخالَصات: رسید۔اخلاص:
مخلصانہ محبت،وفادارانہ وابستگی،مخلصانہ لگن،خلوص،
صاف دلی،صاف گوئی،حق گوئی،بےلاگ پن،غیر
جانبداری،سے وفاداری،خیرخواہی،ایمانداری کی
فرمانبرداری کی اطاعت۔تَخَلُّص من: سے
آزادی،نجات،فرار۔استخلاص: انتخاب،نچوڑنے
یا کھینچنے کا عمل،اقتباس،نسب،اخذ استنباط،اشتقاق،
نتیجہ،قیاس،(روپیہ)جمع کرنا۔خالِص جمع
خُلَّص: صاف،پاک،بے آمیزش،بےملاوٹ
مخلص،صاف دل،صادق،راست گو،صاف گو،سچا،
— من: سے آزاد،مستثنیٰ۔خالص الأجرة: جس پر
ڈاک خرچ معاف ہو،ٹکٹ لگانے کی ضرورت نہ ہو۔
خالص الرد: پیشگی ادائیگی کیا ہوا،جوابی تار خط
وغیرہ،جس کی ادائیگی کی جاچکی ہو۔خالِصٌ من
الکمرك: محصول معاف(سامان)۔خالص
الضريبة: ٹیکس سے مستثنیٰ۔مُخلَّص(عليه): جس
پرڈاک خرچ کی ادائیگی کی جاچکی ہو۔مُخلِص: نذر
کیا ہوا،فدا،قربان،جانثار۔مخلص،صاف گو،صاف
دل،صادق،کھلا،وفادار۔— لہ: کا وفادار۔—:
پاکدل،راست باز،نیک،صالح،نیکوکار،پاک دامن
پاکباز،متقی۔المخلص: (خط وکتابت میں)آپ کا
مخلص۔مُستَخلَص جمع مستخلصات: اقتباس،
انتخاب۔

خلط ۱۔خَلَطَ ۔ خَلْطًا و خَلَّطَ الشيءَ بالشيءِ:
ایک چیز کودوسری سے ملانا۔خالَطَ مُخالَطَةً و
خِلاطًا: سے مخلوط ہونا،کی ملاوٹ والا ہونا،آمیزش
والا ہونا سے ملنا،میں ملاپ کرنا،کے ساتھ رہنا،
—الداءُ فلاناً: بیماری کا کسی میں اثر جمالینا۔
تَخالَطوا: آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل
جانا۔اِختَلَطَ: ملنا،ملاجلا ہونا۔—الظلامُ: تاریکی کا
سخت ہونا۔الخَلْط: لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے
والا چاپلوسی کرنے والا۔الخِلط جمع اَخلاط: ہر
وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جائے،حرامی۔کہا
جاتا ہے رجل خِلطٌ مِلطٌ: مخلوط نسب والا
آدمی۔الأخلاط: ملی جلی قسمیں۔اخلاطُ القوم:
اوباش،لچے لوگ۔—الجسد (في عرف
الأقدمين): بدن کے چار اخلاط: خون،بلغم،سوداء،
صفراء۔الخُلطَة: شرکت۔الخِلاط: آدمیوں اور
مویشیوں کا ملا جلا گروہ۔الخليط جمع خُلُط و
خُلَطاء: خلط ملط رکھنے والا،شریک،شوہر،ساتھی،
پڑوسی،بھوسا ملی ہوئی مٹی،لوگ جن کا معاملہ ایک ہو۔
کہا جاتا ہے خليط من الناس: اوباش لوگ۔
خليط الرجل: میل جول رکھنے والا،جیسے ہم نشین،
ساتھی۔المِخلاط و المِخلَط: بہت میل جول
رکھنے والا۔جمل مُختَلِط: موٹا فربہ اونٹ،جس کی
چربی گوشت کے ساتھ مل گئی ہو۔الخُلَّيطَى
والخُلَيطَى: اوباش۔کہاجاتا ہے: وقعوا في
خُلَّيطَى: لوگ گڑبڑ میں پڑ گئے۔
۲۔خُولِطَ في عقلِهِ: مخبوط الحواس ہونا۔خَلَّطَ في
الشيءِ: چیز کوخراب وفاسد کرنا کہاجاتا ہے۔خَلَّطَ
المريضُ: بیمار نے بعض چیز کھالی۔خَلَّطَ فی
الکلام: اس نے بکواس کی۔اُختُلِطَ الرجل: کی
عقل خراب ہوجانا۔الخِلْط: احمق۔کہاجاتا ہے
هو خِلطٌ بَيِّنُ الخَلاطَة: وہ احمقوں میں ایک احمق
ہے۔یعنی کھلا بیوقوف ہے۔الخَلِط: احمق۔
الخَلاطَة: عقل کی خرابی،حماقت۔
۳۔اِختَلَطَ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنے میں کوتاہی اور
کمزوری دکھانا۔اختلط الفرس: گھوڑے کا دوڑنے
میں کوتاہی اور کمزوری دکھانا۔
۴۔الخِلط: ٹیڑھا تیر دکمان۔

خلط ۔ خَلَطَ ۔ خَلْطًا ہ ب: کو میں ملانا،کو باہم ملانا،کو
ملانا،کا مرکب بنانا۔—بین: دوچیزوں کوخلط ملط کرنا،
گڈمڈ کرنا،ایک جان کرنا۔—بین و: دوچیزوں
کوخلط ملط کرنا،گڈمڈ کرنا،ایک جان کرنا۔—بین و
—: غلطی سے کسی کو کوئی اور سمجھ بیٹھنا۔خَلَّطَ ہ: کو
ملانا،کو باہم ملانا،ملانا،کا مرکب بنانا۔—: گڑبڑ پیدا
کرنا ابتری پیدا کرنا۔خالَطَ ہ: کو میں ملانا،کو باہم
ملانا،کو ملانا میں مدغم کرنا،کو ایک کرنا،میں خواہ مخواہ دخل
دینا،سے ٹکرانا،متصادم ہونا۔—ہ: کے ساتھ گھل مل
جانا،کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا،سے متعلق ہونا۔خالَطَ
نفسَهُ: تکلیف وغیرہ کا کسی پر پڑنا،حملہ کرنا۔خُولِطَ
في عقلهِ: مخبوط الحواس ہونا۔اِختَلَطَ: مل جانا،ملا
جلا ہونا،ملاوٹ والا ہونا،مرکب ہونا،امتزاج ہونا۔
مختلف العناصر آمیزہ پر مشتمل ہونا،رنگارنگ ہونا،بو
قلموں ہونا،معجون مرکب ہونا،مخلوط ہونا،گڈمڈ ہونا
—ب: کا باہم صحبت ہونا،کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا،سے
گہرے دوستانہ تعلقات ہونا۔—: بوکھلانا،پریشان
ہونا،الجھ جانا۔خَلط: ملانا،مرکب بنانا،میل،اتحاد،
—ب: سے آمیزش کرنا،امتزاج کرنا۔خبط: گڈ
مڈ کرنا،درہم برہم کرنا،حیران کرنا،زک پہنچانا،کچھ کا
کچھ سمجھنا،رائے قائم کرنے میں غلطی کرنا،بوکھلاہٹ،
الجھن،خلط ملط ہونا۔—خِلط جمع اخلاط
آمیزہ کا جز،عنصر،مسالہ،مرکب میں ملائی جانے والی
چیز،(جمع)مرکب،آمیزش،امتزاج،اختلاط،
آمیزہ۔اخلاط الانسان: انسانی جسم کے چار
اخلاط: خون،بلغم،صفرا،سوداء۔اخلاط من
الناس: عام لوگ،عوام،اراذل،کمینے،گھٹیا لوگ،
ہجوم۔خلط مِلط و خلط مَلط: معجون مرکب،
خلط ملط،بےترتیبی مخلوط طور پر۔خَلطَة: آمیزہ،
امتزاج،معجون مرکب۔خُلطَة: ساتھ،رفاقت،
معیت،صحبت،آمیزہ۔خَلّاط و خَلّاطَة جمع
خلّاطات: چیزوں کو باہم ملانے والی مشین۔مکسر۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

Mixer خَلِیط : باہم ملا ہونا، مرکب، معجون مرکب، مخلوط ملا جلا، گڈ مڈ، مختلف قماش کے لوگوں کا مجمع، ملغوبہ۔ — مـن: کا آمیزہ، امتزاج۔ (جمع خُلطَاء): ساتھی، رفیق، ساجھی، شریک، ہم صحبت۔ تَخْلِیط جمع تَخلیطات: پاگل پن، دیوانگی، جنون، ہذیان۔ مُخَالَطَة: ساتھ، رفاقت صحبت معیت، باہمی روابط، باہمی تجارت، شرکت، ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اِختلاط: ملانے، مرکب بنانے (کا عمل) ملا جلا ہونا گھل مل جانا، باہم ملنا، الجھن، دماغی خرابی، (سماجی) روابط، شرکت، — بـه: سے تعلقات۔ مَخلُوطٌ جمع مَخَالِیط آمیزہ، امتزاج، بھرت، معدنی آمیزش۔ مُخَلَّط بوکھلایا ہوا، پریشان، گھبرایا ہوا۔ مُخَالَطٌ ب: کسی بیماری سے متاثر، تکلیف میں پڑا ہوا۔ مختلط: ملایا ہوا ملا ہوا، خلط ملط کیا ہوا، مخلوط، المحاکم المختلطة: مخلوط عدالتیں۔ تعلیم مُختَلِطَ: مخلوط تعلیم۔

خلع: ۱۔ خَلَعَ ـَ خَلعًا الشیءَ: کو اتارنا۔ — علیه ثوباً: کو خلعت بخشنا، — کتفهُ او وَرِکَهُ: کا کندھا یا کولہا اتارنا، کو اپنی جگہ سے ہٹانا۔ — القائد: قائد کو معزول کرنا۔ العذارَ حیا کو خیرباد کہنا، اور اپنی خواہشات کا غلام بن جانا۔ کہا جاتا ہے: خلع یداً من طاعة: بغاوت کرنا۔ — الشجرُ: درخت کا اپنے پرانے پتے جھاڑنا۔ — الدابَّةَ: جانور کو بندش سے آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، — خَلعًا و خُلعًا امراتهُ: اپنی بیوی کو مال کے عوض طلاق دینا صفت مفعولی: خَالِع، اسم الخُلعة۔ — ابنهُ: بیٹے کو عاق کرنا صفت مفعولی: خَلیع (جاہلیت میں ایسا کیا جاتا تھا)۔ خُلِعَ المیتُ: میت کا کفن جدا کیا جانا۔ خَلَّعَ هُ: کو الگ الگ کرنا۔ خَالَعَ الرجلَ: سے جوا کھیلنا۔ — الرجلُ زوجتهُ او المراةُ زوجَها: مال معین کے عوض خاوند کا بیوی سے یا بیوی کا خاوند سے جدائی اختیار کرنا۔ تَخَلَّعَ فی المشی: چلنے میں پیروں کو الگ الگ رکھنا۔ تَخَالَعَ الزوجُ و الزوجةُ: خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے سے مال پر جدائی اختیار کرنا۔ — القومُ: باہم عہد توڑنا۔ اِنْخَلَعَ: اپنی جگہ سے اکھڑ جانا، ہٹ جانا۔ اِختَلَعَ الشیءَ: کو نکال لینا، کھینچ لینا۔ — القومُ الرجلَ: کا مال لے لینا۔ — ت المراة من زوجها: عورت کا اپنے خاوند کا مال دیکر طلاق لے لینا۔ اسم: الخُلع۔ الخُلاع: ایک قسم کی دیوانگی جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ الخُلعَةُ: عمدہ مال، کمزوری۔ کہا جاتا ہے: فیه خُلعةٌ: اس میں کمزوری ہے۔ الخِلعَة: اتارا ہوا کپڑا، انعام کے طور پر بخشی ہوئی پوشاک، عمدہ مال۔ الخَلیع جمع خُلعَاء: معزول کیا ہوا، پکا جوئے باز۔ ثَوبٌ خَلیع: بوسیدہ کپڑا۔ الْخُولَع: احمق۔ رجلٌ خَیلَع: کمزور آدمی۔ المُخَلَّع من الرجال: کمزور ڈھیلے جوڑوں والا، اکھڑے ہوئے جوڑوں والا، وہ شخص جس کا پورا بدن یا کچھ حصہ بدن کا بے حس و حرکت ہو۔

۲۔ خَلُعَ ـُ خَلَاعَةً: خواہشات نفسانی کا غلام بننا، بے حیا ہونا۔ تَخَلَّعَ فی الشراب: شراب میں منہمک ہونا۔ الخَلیع جمع خُلعَاء: عیاش۔ الخَلیعَة: خَلیع کا مؤنث۔ خود مختار عورت جسے کورو کنے ٹوکنے والا نہ ہو اور وہ من مانی کرتی ہو وہ بے حیائی۔

۳۔ خَلَعَ ـَ خَلعًا الشجرُ: درخت کا نئے پتے اگانا۔ اَخلَعَ الشجرُ: درخست کا نئے پتے اگانا۔ — السنبلُ: بالی میں دانے آنا۔

۴۔ الخَلیع جمع خُلعَاء: خبیث (ح): بھیڑیا، بھوت۔ الخَیلَع: بے آستینوں کی قمیض۔ الخَولَع (ح): بھیڑیا (ط) آٹے سے تیار کیا ہوا ایک قسم کا کھانا، سرکہ میں جوش دیا ہوا گوشت جو سفروں میں ہمراہ رکھا جاتا ہے: — والخَیلَع: دل پر چھا جانے والا خوف۔

○ خَلَعَ ـَ خَلعًا ه: لباس اتارنا۔ — طَربُوشَهُ: پھندنے دار یا ترکی ٹوپی اتارنا۔ — ه: (دانت وغیرہ): اکھاڑنا، نکالنا — ه: (جوڑ) کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، اتار دینا۔ — ه مـن: کو اس کے منصب سے معزول کرنا: — ه: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا سے دست بردار ہونا، سے قطع تعلق کرنا، دست کش ہونا، — عِذارَهُ: پابندی، رکاوٹیں اتار پھینکنا، — الطاعة: فرمانبرداری، اطاعت سے انکار کر دینا۔ — ابنه: بیٹے کو عاق کرنا، بیٹے سے قطع تعلق کر لینا، اپنانے سے انکار کر دینا: — ها: بیوی سے مال لیکر اسے طلاق دے دینا۔ — ه: کو ختم کرنا، (سخت دن) جھیلنا، — ه علی: کو کچھ بناتا، ظاہر کرنا، کو کچھ عطا کرنا، بخشنا کو کچھ انعام کے طور پر دینا۔ خَلَعَ لِباسَهُ: کپڑے اتارنا۔ خَلَعَهُ من العرش: کو تخت سے اتارنا، معزول کرنا۔ خلع علیه خِلعَةً: کو خلعت عطا کرنا۔ خلع علی نفسه حقّ: ناجائز طور پر کے حق کا دعوی کرنا۔ خَلُعَ ـُ خَلَاعَةً: بدچلن، آوارہ، بدکار یا بدمعاش ہونا خراب چال چلن والا ہونا۔ خَلَّعَ ه: کو لینا، ہٹانا، کو جگہ سے ہٹانا کو جگہ سے بے جگہ کرنا، جوڑ الگ کرنا، اتارنا۔ خُلِّعَ: جوڑ اترنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ خَالَعَ ها: بیوی کو مال کے عوض طلاق دینا، بیوی سے معاوضہ لے کر اسے طلاق دینا۔ تَخَلَّعَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ٹوٹ جانا جدا ہونا، جوڑ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اتر جانا۔ جوڑ میں موچ آ جانا۔ —: علاقہ میں چھٹیاں گزرنا، تَخَلَّعَ فی الشراب: شراب کا عادی ہونا، بہت شراب پینا۔ اِنْخَلَعَ: جگہ سے ہٹ جانا، بے جگہ ہونا، — مـن: سے محروم ہونا، کو کھو دینا، سے حق ساقط ہو جانا۔ اِنْخَلَعَ قَلبُهُ: مکمل طور پر بھونچکا ہو جانا، دہشت زدہ ہو جانا، گھبرا جانا، حواس باختہ ہو جانا۔ خَلْع: کپڑے اتارنا، معزولی (حاکم کی)، ہڈی یا جوڑ کا اترنا یا اتارنا، موچ۔ خلع الاسنان: دانت اکھاڑنا۔ خُلع: خلعہ، عورت کا مال کے عوض طلاق لینا۔ خِلعَة: خلعت۔ خَلیع جمع خُلعاء: معزول، برخواست شدہ، عہدہ سے سبکدوش کیا ہوا، عاق، جسے اپنانے سے انکار کیا گیا ہو، جس سے قطع تعلق کیا گیا ہو، بے حیا، بدکار، عیاش، بدچلن، اوباش، لفنگا، فاسق، فاجر۔ خَلّاع: جنگلی، وحشی، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا، آوارہ، اوباش، چنچل، من موجی، بے شرم، بے حیا، گستاخ، ڈھیٹ، خَلاعَة: آوارگی، بدچلنی، عیاشی، مال و دولت اور طاقت کو عیاشی میں اڑانا، لفنگا پن، رندگی، بدکاری کسی علاقہ میں تفریح گرمیوں کی تعطیلات۔ خَولَع: بے وقوف، احمق، سادہ لوح۔ خَالِع العذار: جسے روکا نہ گیا ہو، کسی پابندی کے بغیر، آوارہ، اوباش، عیاش، بدکار، لفنگا۔ مَخلُوع: جسے روکا نہ گیا ہو، کسی پابندی کے بغیر، آوارہ، عیاش، جنگلی، وحشی، قابو میں نہ آنے والا، عاقبت نااندیش، لاپروہ، غیر ذمہ دار، پاگل، سودائی۔

خلف: ۱۔ خَلَفَ ـُ خِلافَةً و خِلّیفَی هُ: کا جانشین ہونا۔ — هُ ربُّهُ فی قومه: اللہ تعالیٰ کا کسی کو اس کی قوم میں جانشین بنانا۔ — الرجلَ: کے بعد میں رہ کر اس کا قائم مقام ہونا۔ — خَلَفًا و خِلفَةً ت الفاکهةُ بعضها بعضًا: پھلوں کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہونا۔ — خَلفًا اباهُ: اپنے باپ کا جانشین ہونا یا قائم مقام ہونا۔ — فلاناً: کا جانشین ہونا۔ کہا جاتا ہے: خَلَفَ اللّٰهُ لك او علیك: اللہ تعالیٰ تمہیں عوض و بدلہ دے۔ خَلِفَ ـَ خَلَفَات الناقةُ: اونٹنی کا حاملہ ہونا۔ خَلَّفَهُ: کو اپنا جانشین بنانا۔ اخلف ت الشجرةُ: درخت کا کاٹی ہوئی شاخ کے بعد دوسری شاخ نکالنا۔ — الطائرُ: پرندے کا پہلے پروں کے بعد دوسرے پر نکالنا۔ — نفسه: ایک چیز کھونے کے بعد دوسری کو اس کا قائم مقام بنانا — اللّٰهُ علیه: کو اللہ تعالیٰ کا کھوئی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہوئی چیز کا عوض و بدلہ دینا۔ اِخْتَلَفَ ہٗ: کا جانشین ہونا۔ اِسْتَخْلَفَ ہٗ: کو اپنا جانشین بنانا۔ —فلاناً من فلان: فلان کو فلان کا قائم مقام کرنا۔ —ت الارضُ: زمین کا خریف کی گھاس سوکھنے کے بعد گرمیوں کی گھاس اگانا۔ الخَلَف: بچہ، نیک بچہ، نسل، بعد میں آنے والا (کہا جاتا ہے: هم كِرامٌ خَلفاً عن سلفٍ: ان کو شرافت و بزرگی اپنے باپ دادوں سے وراثت میں ملی ہے۔ هو خَلَفُ صدق عن ابيه: وہ اپنے باپ کا اخلاق و صفات میں سچا جانشین ہے کسی کے بعد حاصل ہونے والی شئے، بدل، عوض۔ کہا جاتا ہے: فی هولاء القوم خلفٌ ممن مضى: اس قوم میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے اگلے کے جانشین ہیں۔ اعطاك اللّٰهُ خَلَفًا من تلفٍ: اللہ تعالیٰ تم کو ضائع شدہ چیز کا بدلہ و عوض عطا فرمائے۔ الخِلْف جمع اَخْلاف و خِلْفَة: گرمی کے موسم میں اگنے والی گھاس۔ الخِلْفَة: گرمی کے موسم میں اگی ہوئی گھاس، کہا جاتا ہے: جَعَلَ الليل و النهارَ خِلْفَةً: اللہ تبارک وتعالیٰ نے رات ودن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ هُنَّ يمشين خِلْفَةً: وہ سب آگے پیچھے آ جا رہی ہیں۔ الخَالِف (فا): جو ایک شخص کے جانے کے بعد بیٹھا رہے۔ الخَالِفَة: خالف کا مؤنث۔ ایک جماعت کے گزر جانے کے بعد باقی ماندہ جماعت۔ الخِلافة: امارت، جانشینی، امامت۔ الخَلِيفَة جمع خُلَفاء و خلائف: جانشین، قائم مقام (پہلی جمع کے ساتھ عدد مذکر آتا ہے جیسے کہا جائے: ثلاثة خلفاء: دوسری جمع کے ساتھ عدد مذکر و مونث دونوں آ سکتے ہیں، جیسے۔ ثلاثةُ و ثلاثُ خلائف) سب سے بڑا امام (یہ مذکر ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: هذا خليفةٌ آخر: کبھی لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے مونث مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے: خليفةٌ اُخرى۔

۲۔ خَلَفَ ـِ خَلْفًا البيتَ: مکان کے پچھلے حصہ میں ستون لگانا۔ —عن أصحابه: ساتھیوں سے پیچھے رہ جانا۔ —فلاناً: کو پیچھے سے پکڑنا۔ کہا جاتا ہے: خَلَفَ له بالسيف: کے پیچھے سے آکر اس کی گردن پر تلوار سے وار کرنا۔ کہا جاتا ہے: خَلَفَ له بخير او شر: کے پیچھے یا کی غیر حاضری میں اس کا بھلا یا برا ذکر کرنا۔ خَلَّفَ الشيءَ: کو پیچھے چھوڑنا، مؤخر کرنا۔ خَالَفَ خِلافًا و مُخَالَفَةً عن كذا: سے پیچھے رہنا، —بين رجليه: ایک پاؤں کو آگے اور دوسرے کو پیچھے کرنا۔ آپ کہتے ہیں: خَالَفَنِی عن كذا: اس نے اس سے اعراض کیا جب کہ تم اس کا قصد کر رہے تھے۔ خالفنى اِلى كذا: اس نے اس کا قصد کیا اور تو نے اعراض۔ اَخْلَفَ ہٗ: کو پیچھے ہٹانا۔ تَخَلَّفَ عنهم: کے پیچھے رہنا۔ —القومَ: قوم کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جانا۔ اِخْتَلَفَ ہٗ: کو اپنے پیچھے کرنا، کو پیچھے سے پکڑنا۔ —اِلى المكان: کسی جگہ بار بار جانا۔ الخَلْف (مص): پیچھے۔ پچھلی طرف کا ظرف و اسم۔ —جمع خُلُوف: ایک گروہ کے بعد ایک گروہ اسی سے ہے: هولاء خلفُ سوء: یہ لوگ اپنے سے زیادہ لوگوں سے آملے ہیں۔ الخُلْفَة: کھانے کا آخری مزہ۔ الخِلْفَة: سوار کے پیچھے لٹکائی جانے والی چیز، آمد و رفت، باقی ماندہ جو بعد میں یا پیچھے آئے۔ کہا جاتا ہے: فی البئر خِلْفَةٌ من الماء: کنویں میں باقی ماندہ پانی ہے۔ الخَلِيف جمع خُلُف و خُلُف و خُلَف: میعاد سے پیچھے رہنے والا، وہ عورت جو اپنے بالوں کو پیچھے لٹکائے۔ الخَالِفَة: گھر کے پچھلے حصہ میں لگا ہوا ستون۔ الخَوَالِف: دیر سے سبزہ اگانے والی زمینیں عورتیں۔ بعض کے نزدیک گھر میں پیچھے رہنے والی عورتیں۔

۳۔ خَلَفَ ـُ خلافةً و خُلُوفًا الغلامُ: لڑکے کا بے وقوف ہونا صفت: خَالِف و خالِفَة۔ خَلِفَ ـَ خَلَفًا: کم عقل ہونا، احمق ہونا۔ الخَالِف: احمق۔ رجلٌ خَالِفَةٌ: احمق آدمی۔ الأخْلَف: کم عقل، احمق۔ الخُلْفَة: حماقت، بے وقوفی۔

۴۔ خَلَفَ ـُ خَلَافَةً و خُلُوفًا عن خُلُق ابيه: اپنے باپ کی عادت و خصلت سے بدلا ہوا ہونا۔ —خُلُوفًا و خُلُوفَةً فمُ الصائم: روزہ دار کے منہ کی بو کا متغیر ہونا، بدبودار ہونا۔ —الطعامُ: کھانے کے مزے یا بو کا متغیر ہونا۔ اَخْلَفَ: کی بو کا متغیر ہونا، خراب ہونا۔ اسی سے ضرب المثل ہے: نومةُ الضحى مُخلِفَةٌ الفم: دوپہر سے قبل سونے سے منہ کی بو متغیر ہو جاتی اور بگڑ جاتی ہے۔ نبيذٌ خالِفٌ: خراب شدہ انگور کا رس۔

۵۔ خَلَفَ ـِ خَلْفًا الرجلُ: پانی طلب کرنا۔ اَخْلَفَ لأهله: اپنے اہل کے لئے پانی طلب کرنا۔

۶۔ خَلَفَ ـِ خَلْفًا الثوبَ: کپڑے کی درستی کرنا، کپڑا ٹھیک ٹھاک کرنا۔ —اَخْلَفَ الثوبَ: کپڑے کی درستی کرنا۔

۷۔ خَلِفَ ـَ خَلَفًا: بائیں ہتھا ہونا، کھبچو ہونا، بھینگا ہونا۔ الأخْلَف: کھبچو، بھینگا۔

۸۔ خَالَفَ خِلافًا و مُخَالَفَةً ہٗ: کی مخالفت کرنا۔ تَخَالَفُوا و اِخْتَلَفُوا: آپس میں [illegible] نا موافق ہونا۔ الخُلْف: خلاف مفروض، نمایاں فرق۔ قياسُ الخُلْف فى المنطق: منطق کی اصلاح میں ایک نقیض کے امتناع سے دوسرے نقیض کے تحقق پر استدلال۔ الخِلْف جمع اَخْلاف و خِلْفَة: مختلف۔ الخِلْفان: دو مخالف صفات کی چیزیں، کہا جاتا ہے: له وَلَدانِ خِلْفانِ: اس کے دو بیٹے ہیں، ایک عقلمند یا لمبا ہے اور دوسرا جاہل یا ٹھگنا ہے۔ ولدت الناقة خِلْفَينِ: اونٹنی نے ایک سال نر بچہ جنا اور ایک سال مادہ بچہ۔ الخِلاف: ناموافقت۔ الخُلْفَة: مخالفت۔ الخِلْفَة: مخالفت، مختلف۔ کہا جاتا ہے: قومٌ خِلْفَةٌ: اختلاف کرنے والے لوگ۔ الخالِفَةُ من الرجال: بہت اختلاف کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: مادرى اى خالِفَةٍ هو واىُّ الخالِف هو: میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔ الاختلاف او اختلاف المنظر لكوكب ك فى مكان ب من الارض: وہ زاویہ جس کا سرک اور قاعدہ زمین کا نصف قطر اور ب ہو۔ یہ اختلاف سب سے بڑا اس وقت ہوتا ہے جب کرک افق ب میں ہو۔ اور اختلاف افقی کہلاتا ہے۔ اختلاف الشمس (فک) سورج کے مرکز کا اختلاف، جس کی اوسط قیمت ۸،۸۰ ث ہوتی ہے۔ الاختلاف او التباعد المركزى فى القطوع المخروطية (ه): فوکس سے سیکشن کے نقطہ کے بعد کی لکیر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بعد کی نسبت۔ المسائل الخِلافية: اختلافی مسائل۔

۹۔ اَخْلَفَ وعده و بوعده: وعدہ پورا نہ کرنا —ہٗ: کو وعدہ خلاف پانا۔ —الغيثُ: بارش کی امید بندھنے کے بعد اس کا نہ برسنا۔ الخُلْف: وعدہ ایفاء نہ کرنا۔ جو مستقبل میں ماضی میں جھوٹ کی طرح ہے۔ الخَلِيف جمع خُلَف و خُلُف: خلاف وعدگی کرنے والا۔ المِخْلاف جمع مَخَالِيف: بڑا وعدہ خلاف آدمی۔

۱۰۔ اَخْلَفَ الغلامُ: لڑکے کا جوانی کے قریب پہنچنا۔

۱۱۔ اَخْلَفَ الدواءُ فلاناً: کو دوا کا کمزور کر دینا۔ الخَلْفَة: بیماری کی وجہ سے اشتہاء کا جاتا رہنا۔

۱۲۔ الخَلْف جمع خُلُوف: ردی بات (ضرب المثل ہے: سكت الفًا و نطق خَلْفًا: وہ طویل عرصہ تک ہزاروں باتوں سے خاموش رہا اور جب مہر خاموشی توڑی تو ردی بات منہ سے نکالی۔) کلہاڑی کی دھار، کلہاڑا، بے خیر آدمی، پہلو کی سب سے چھوٹی پسلی۔ الخِلْف جمع اخلاف و خِلْفَة: اونٹنی کے تھن کا سرا۔ ذات الخِلْفَين: کلہاڑی۔ رجلٌ خالِفَةٌ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جھگڑالو آدمی۔الخِلاف (ن) بید کے درخت کی ایک قسم۔قمیض کی آستین۔الـخُـلـفَة: عیب،نقص۔ الخِلفَة: کپڑے کا پیوند۔الخَلِیف جمع خُلُف و خُلُف و خلَف: دو پہاڑوں کے درمیان راستہ یا پہاڑی راستہ۔الأخـلَف (ح): نرسانپ،سیلاب۔ المِـخلاف: صوبہ۔ اسی سے ہے: مـخـالیف الیمن: یمن کے صوبے۔المَخلَفَة: وہ جگہ جہاں بید کے درختوں کی کثرت ہو۔راستہ،مرحلہ،منزل۔

حَـلَفَ ـُ خـلافةً ہ: کا جانشین ہونا، کے بعد آنا، کی جگہ کچھ بننا، کے پیچھے آنا، کی جگہ لینا، کا قائم مقام ہونا۔ ہ/ہ: کی جگہ لینا۔ـعـن: سے پیچھے رہ جانا، کے جانے کے بعد پیچھے رہنا، سے رکنا، پرے رہنا، دور رہنا۔خَـلَّفَ ہ: کو جانشین بنانا۔ـہ/ہ: کو پیچھے چھوڑنا، چھوڑنا،ـ: اولا دوالا ہونا۔خـالَفَ ہ: سے متضاد ہونا کے برخلاف ہونا، برعکس ہونا کا مخالف ہونا، الٹ ہونا، ضد ہونا، سے متصادم ہونا، مختلف ہونا، ـہ/ہ: کی تردید کرنا۔ـہ: سے مختلف ہونا، جدا ہونا، سے بے میل یا بے جوڑ ہونا سے غیر آہنگ یا غیر مطابق ہونا۔ (حکم، قاعدہ کی) خلاف ورزی کرنا نافرمانی کرنا، کی حکم عدولی کرنا، کو توڑنا۔اَخـلَفَ ہ: اولا، بچے چھوڑنا۔ـعلی: اللہ تعالی کا کسی کے نقصان کی تلافی کرنا، کو بدلہ دینا۔ـوعـدہ: وعدہ توڑنا، پورا نہ کرنا،ـ: اپنے قول سے پھر جانا۔ـالـرجـاءَ: امیدیں توڑنا توقعات باطل کرنا۔تـخـلَّف: پیچھے رہنا۔ـعـن: سے پیچھے رہنا،ـ: رہنا، حاضر نہ ہونا، سکول وغیرہ سے بھاگ جانا بلا اجازت غیر حاضر رہنا، گریز پائی کرنا، غیر حاضر ہونا۔عن: سے پرے رہنا، کے پاس نہ جانا، پر توجہ نہ کرنا۔تـخـلَّف عـن المجیء: آنے یا پہنچنے میں ناکام رہنا۔تـخلف عن العودة: واپس نہ آنا۔تـخالَف: مختلف ہونا، ناموافق ہونا، اختلاف رائے کرنا، مختلف الذہن ہونا۔ اِختَـلَف عـن: سے مختلف ہونا۔ـ: متلوں ہونا، تغیر پذیر ہونا، مختلف ہونا، متعدد ہونا غیر مشابہ ہونا۔ـبین: کے درمیان مختلف حجم، قیمت وغیرہ کا ہونا۔ـفی: کے بارے میں متفق نہ ہونا، اختلاف رائے رکھنا، بحث کرنا، لڑنا، جھگڑنا۔ـ الـی: کسی کے پاس اکثر آتے جاتے رہنا، کی جگہ اکثر جانا، جایا کرنا، کسی شخص سے اکثر ملاقات کرنا، کسی جگہ اکثر جانا۔کسی جگہ آنا جانا۔ عـلـی: مصیبت وغیرہ کا کسی پر پڑنا، نازل ہونا، کو اچانک آلینا۔اِسـتَخلَفَ ہ: کو جانشین یا حلقے کا مددگار پادری مقرر کرنا۔خَـلـف: پیچھے، پچھلا حصہ جانشین (جمع) خَـلَفُ و من خَلفُ: پیچھے۔خَلفَ: کے پیچھے، کے بعد، کی پشت پر۔جَـرَی خَـلـفها: وہ اس (عورت) کے پیچھے دوڑا۔مـن خَـلفِ: کے پیچھے۔ مـن الـخَلف: پیچھے سے۔الـی الـخلاف: پیچھے کو، پیچھے کی طرف، پیچھے۔الـی خـلف الشیء: کے بعد، کے نقش قدم پر۔ـفـی الخلف: پیچھے، پس منظر میں۔ خـلـفـی: عقبی۔خِلف جمع اَخلاف: بھٹنی، چوچی، (جانوروں کا) تھن (عورتوں کا) سرپستان، نپل۔ خُـلـف: عدم مشابہت، فرق، تفاوت، نمایاں فرق اختلاف، تناقض، اختلاف۔خَـلَف جـمـع اَخـلاف: بدل، قائم مقام، جانشین، اولاد، خلف، نسل، چشم و چراغ۔خِـلـفَة: عدم مشابہت، فرق، تفاوت، اختلاف، (پودوں کی نمو ثانی، دن اور رات وغیرہ کا) ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور اس کی جگہ لینا۔خَلِیفة جمع خُلَفاء و خلائف: حلقے کا مدد گار پادری، قائم مقام، نمائندہ، وکیل، جانشین، خلیفہ۔ (زمانہ گزشتہ میں تیونس کی ملکی انتظامیہ کا ایک بڑا اہلکار جس کا سربراہ قائد کہلاتا تھا، (پچھلے زمانہ میں) ہسپانوی مراکش کے حاکم کا لقب۔المِنطَقَةُ الخَلِیفیة: خلافتی علاقہ۔خِـلافَة: مددگار پادری کا عہدہ، قائم مقام، نمائندہ، وکیل کا عہدہ، جانشینی، خلیفہ کا عہدہ یا حکومت، خلافت، زمانہ سابقہ میں خلیفہ کا انتظامی محکمہ۔ مِخلاف جمع مخَالیف: صوبہ (یمن میں)خِلاف جـمـع خـلافـات: اختلاف، فرق، تفاوت، عدم مشابہت، تجاوز، انحراف، کج روی، نمایاں فرق، تخالف، تباین، تضاد، بے محل ہونا، تردید، مخالفت، اختلاف رائے آویزش، لڑائی جھگڑا، ناموافقت، مباحثہ، مناقشہ۔خِـلافَ: سے قطع نظر، کے مقابلہ میں۔خِـلافُـهُ بـمـعنی غیرہ: دوسرا، دیگر، جیسا۔ خلافُهم: مذکورین کے علاوہ دوسرے لوگ و خلافه: اور اس جیسا۔بخلافِ: سے قطع نظر، کے مقابلہ میں، کے برخلاف، کے برعکس، کے علی الرغم، کے الٹ، کی ضد، سے مختلف۔خِـلافًـا لِ: کے برخلاف، کے برعکس، کے علی الرغم، کے خلاف۔علی خـلافِ ذلك: کے برخلاف کے برعکس، کے علی الرغم، سے مختلف، نہیں بلکہ، (ایک طرف تو یہ) دوسری طرف (یہ)خِلافی: اختلافی، نزاعی، تکراری۔مخالفة جمع مخالفات: نمایاں فرق، تخالف، تباین، تضاد، تردید، خلاف ورزی، چھوٹا جرم، چھوٹے جرم پر جرمانہ۔تـخَـلُّف: دور رہنا، سامنے نہ آنا، غیر حاضری، غیر موجودگی، کام سے بھاگنا، بلا اجازت غیر حاضر رہنا۔(تـخلف عن الحضور بھی کام سے بھاگنے یا بلا اجازت غیر حاضر رہنے کے معنی میں ہے)۔ پیچھے رہ جانا۔ سفر کے دوران کسی جگہ تھوڑا سا رکنا (جیسے ریلوے کی گاڑیوں کا)، پسماندگی۔اِختـلاف جـمـع اِختـلافـات: اختلاف، عدم مشابہت، تفاوت، فرق، اختلاف، رنگا رنگی، تبدیلی، تغیر مختلف، اختلاف رائے، ناموافقت، مباحثہ مناقشہ۔الرعیة علـی اختلاف المذاهب الدینیة: بلا لحاظ مذہبی فرقوں کے ملک کی رعایا۔علی اختـلافِ احـزابهـم: خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔الـفـواکه علی اختلافها: تمام مختلف پھل، ہر قسم کے پھل۔مَـخـلُـوفَةَ جـمـع مَخلُوفات: اونٹ کی کاٹھی، گدی، یا زین۔مُخَلَّف: چھوڑا ہوا، پیچھے چھوڑا ہوا، بچا کھچا پس خوردہ۔ مُـخَـلَّفَـات: ورثہ، ترکہ، میراث، جائیداد، ریزے، پس خورد اشیاء۔بچی کچی چیزیں۔مـخـالِف: مختلف، بے میل، بے جوڑ، متضاد، عکس، الٹ، تردیدی، نمایاں، مخالف، متصادم، باہم دگر آویزاں خلاف ورزی کرنے والا۔مُتَـخَـلِّف: بقیہ، پس ماندہ پس خوردہ، بچا کھچا، روکا ہوا، ترقی پذیر، جمع مُتَـخَلِّفُون: جو پیچھے رہ گیا ہو، پیچھے رہ جانے والا۔مـتـخـلـفـات: ورثہ، ترکہ، میراث، جائیداد، پس خوردے ردی ٹکڑے، پرزے، فضلہ، آخور، بیکار گوشت (چھیچھڑے اوجھڑی وغیرہ)۔تُـربَة مُتَـخَـلِّفَة: ردی سامان۔ المِیَاهُ المُتخَلِّفة: گندا پانی، گندے نالے کا پانی، بدرو کا پانی۔مُختَلَف فی (علیه): اختلافی، نزاعی۔ مُختَلِفٌ من: سے مختلف، مختلف فی/علی: کے بارے میں مختلف الرائے، اتفاق نہ کرنے والا، غیر متفق۔

خلق: خَلَقَ ـُ خَلقًا و خَلقَةً ہ: کو پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا۔الـکـذبَ: جھوٹ گھڑنا۔خَـلُـقَ الـغلامُ: لڑکے کا اچھے اخلاق والا ہونا۔تـخَـلَّـقَ و اِختَـلَقَ الکذبَ: جھوٹ گھڑنا، افتراء کرنا۔الخَلق (مص): لوگ، فطرت۔الـخِـلقَة جمع خِـلَق: فطرت، ہیئت۔الـخَلِیق جمع خُـلُـق و خُلَقاء: کامل اور معتدل ساخت والا۔الـخَلِـیقَة جـمـع خَلائِق: اللہ تعالی کی مخلوق طبیعت۔المُختلق: کامل اور معتدل ساخت والا۔

۲۔خَـلَقَ ـُ خَـلـقًـا و خَلقَةً الادیمَ: چمڑے کا اسے کاٹنے سے پہلا اندازہ کرنا۔

۳۔خَـلَقَ ـُ خَـلقًا و خَلقَةً الشیءَ: کو ہموار کرنا، چکنا کرنا، نرم کرنا۔خَـلِقَ ـَ خَلقًا و خَلُقَ ـُ خُلُوقًا و خُلُوقَةً و خَلاقَةً: چکنا ہونا، نرم ہونا۔خَلَّقَ العودَ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لکڑی کو ہموار و برابر کرنا۔ —القدحَ: تیر کو زم کرنا۔ اِخلَولَقَ متنُ الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کا چکنی ہونا۔ —الرسمِ: کھنڈر کا زمین کے برابر ہوجانا۔ الخَلَق: ہر چکنی چیز۔ الخلاق: چکنا۔ الأخلَق مونث خَلْقاء: چکنا۔

۴۔ خَلَقَ ـُ وخَلِقَ ـَ و خَلُقَ ـُ خُلُوقَةً و خَلَقًا الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ اَخلَقَ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ —الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ —الشبابُ: جوانی کا ختم ہونا۔ —ہُ الثوبَ: کو بوسیدہ کپڑا پہنانا۔ کہا جاتا ہے: اَخلَقتُ له دیباجتی: میں نے اسے اپنے ایسے بھید سے مطلع کیا جس کے ظاہر ہونے سے مجھے عار ہے۔ اِخلَولَقَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ —ت الدارُ گھر کا ویران و اجاڑ ہونا۔ الخَلَق جمع اَخلاق و خُلقان. بوسیدہ (مذکر و مونث دونوں کے لئے)۔ کہا جاتا ہے۔ ثوبٌ خَلَقٌ و جُبَّةٌ خَلَقٌ: بوسیدہ کپڑہ، بوسیدہ جبہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ثوبٌ اخلاقٌ و ثیابٌ اخلاقٌ: بوسیدہ کپڑا، بوسیدہ کپڑے۔

۵۔ خَلُقَ الشیءُ لہ: چیز کا کسی کے لئے لائق و سزاوار ہونا۔ الأَخلَق مونث خَلَقاء: زیادہ لائق، زیادہ مناسب۔ الخَلِیق جمع خُلُق و خُلَقاء: لائق، مناسب۔ کہا جاتا ہے: ھو خلیقٌ بہ: وہ اس کے لائق ہے، وہ اس کا اہل ہے۔ المَخلَقَة: لائق۔ کہا جاتا ہے: ھو مَخلَقَةٌ بذَلِكَ و لِذَلِكَ: وہ اس کے لائق ہے۔

۶۔ خَالَقَ مُخَالَقَةً القومَ: لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ رہنا۔ تَخَلَّقَ باَخلاقہ: کے اخلاق میں ڈھلنا۔ —بغیر خُلُقِہ: بناوٹی خلیق بننا۔ اسی سے ہے: لیس التخَلُّقُ بالاخلاق کالخُلق: بناوٹی اخلاق طبعی عادات کے مثل نہیں۔ الخُلُق و الخُلْق جمع اَخلاق: مروت، عادت، طبعی خصلت طبیعت۔ عِلمِ الاخلاق: حکمت عملیہ کی ایک قسم جسے حکمت خُلُقِیَّة بھی کہا جاتا ہے۔ المُختَلَق: کریم الاخلاق۔

۷۔ خَلَّقَ ہُ: کو "خُلُوق" خوشبو لگانا۔ تَخَلَّقَ: "خَلُوق" خوشبو لگانا۔ الخِلاق و الخَلُوق: ایک قسم کی خوشبو جس کا جزو اعظم زعفران ہوتا ہے۔

۸۔ اِخلَولَقَ: عسی کی طرح کبھی امید کے معنی بھی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے: اِخلَولَقَتِ السماءُ أَن تمطر: یعنی امید ہے کہ بارش ہو۔ خِلولَق او شکت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس صورت میں معنی ہوں گے "بارش برسنے کو ہے"۔ دوسرے لفظوں میں معنی ہے: قریب ہے کہ بارش برسنے لگے۔

۹۔ الخَلِق: بارش کے آثار والا بادل۔ الخَلَاق: بھلائی کا بڑا حصہ۔ الخَلِیقَة جمع خَلائِق: وہ کنواں جو کھودا جا رہا ہو۔ الأخلَق مؤنث خَلْقاء: فقیر۔

۱۰۔ الخِلقِین جمع خَلَاقِین: بڑی کڑھائی یا دیگ۔

○ خَلَقَ ـُ خَلْقًا ہ: کی تخلیق کرنا، کو بنانا، وجود میں لانا، صورت دینا، تشکیل کرنا، ڈھالنا۔ خَلِقَ ـَ و خَلُقَ ـُ (لباس کا) پرانا ہونا۔ بوسیدہ ہونا۔ خَلُقَ ـُ خَلَاقَةً: موزوں ہونا، راس آنا، پھبنا، سجنا، اچھا لگنا، شایاں ہونا، مناسب ہونا، خَلَّقَ ہ: کو خوشبو لگانا، میں خوشبو ڈالنا۔ اَخلَقَ ہ: کو کثرت استعمال سے پتلا، کمزور، بے کار کر دینا۔ کو پرانا یا پھٹا پرانا کر دینا۔ تَخَلَّقَ: خود کو خوشبو لگانا۔ —ب: (نمونہ، مثال) میں ڈھلنا، (نمونہ) کے ذریعے تبدیل ہونا، —: ناراض ہوجانا۔ اِختَلَقَ ہ: کو ایجاد کرنا، اختراع کرنا، کو گھڑنا، گھڑنا، تراشنا، خیال یا منصوبہ تخلیق کرنا۔ —علی ہ: سے کوئی بات دھوکے سے منسوب کرنا۔ خَلق: پیدائش، تخلیق، آفرینش، ایجاد، اختراع، مخلوقات، موجودات، کائنات، بنانا، تخلیق (شدہ چیز)، لوگ، انسان، نوع انسان، طبعی ساخت، بناوٹ خُلْق و خُلُق جمع اَخلَاق: پیدائشی، خلقی یا جبلی خصوصیت، پیدائشی طبیعت، مزاج یا افتاد طبع، فطرت، اخلاق، اخلاقی قوت، مزاج، طبیعت، مزاج۔ خو۔ جمع اخلاق: (کسی شخص کا) کردار، سیرت، اخلاق، چال چلن، اخلاقیات، اصول اخلاق، حسن عمل، سُوءُ الخُلُق: بری طبیعت، سَیِّءُ الخُلق: بدطینت، بدمزاج، بدباطن، خبیث فطرت (شخص) سَہلُ الخُلُق: بامروت، بااخلاق۔ ضَیِّقُ الخُلُق: بے صبر، برداشت نہ کرنے والا تنگ آجانے والا، علمُ الاخلاق: علم اخلاق، اخلاقیات اخلاقی اصول، سُمُوُّ الأخلاق: کردار کی اعلیٰ ظرفی۔ مَکَارِمُ الاخلاق: شریف اخلاق و عادات، بلند اخلاقی معیار۔ شُرطَةُ الاخلاق: اخلاقی مجرموں سے نبٹنے والی پولیس۔ خُلُقِی: اخلاقی۔ جَرائِم خُلُقِیة: عوام کے اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے جرائم خَلَق (مذکر و مؤنث) جمع خُلقان و اخلاق: پھٹا پرانا تار تار، گھسا پٹا، بوسیدہ (کپڑا)۔ خِلقَة جمع خِلَق: پیدائش، آفرینش، پیدائشی کردار کی خصوصیت، طبیعت، افتاد طبع، بناوٹ، ساخت، چہرہ مہرہ۔ خِلقَةً: طبیعت کے لحاظ سے۔ خِلقِی: قدرتی، طبعی، پیدائشی، فطری، جبلی۔ خِلقِی، خَلَقَة: کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا، دھجی، چیتھڑا۔ خَلَاق: حصہ (مشبت خوبیوں، مذہب کا)۔ لاخلاق لہ: شرمناک، موجب رسوائی، رسوا کن، فضیحت ناک، فرومایہ، ذلیل، کمینہ، سفلہ، حقارت آمیز، ناکارہ، (شخص)، خَلِیق جمع خُلَقاء: لِ/ب: کے لئے موزوں، اہل، مناسب۔ —ان: کو کرنے کے لئے موزوں، راغب، مائل، —ب: کے مطابق، کے موافق، مناسب، موزوں کے لئے کافی، کے شایان، کے لائق، کے قابل۔ نحن خلیقون ان: ہمیں چاہئے کہ، یہی اچھا ہے یا ہوگا کہ ہم: ھو خلیق أن: وہ راغب یا مائل ہے کہ: اس کے لئے یہی بالکل قدرتی بات ہے کہ وہ۔ خَلِیقٌ بھذا ان یکون مُولِماً: یہ تکلیف دہ ہوگا، یہ قدرتی بات ہے کہ یہ چیز تکلیف دے۔ نظرة یسیرة خلیقة أن تُقنِعَنَا بأن: صرف ایک اچٹتی نظر ہی ہمیں قائل کر دے گی کہ ...... خَلُوق: مضبوط کردار کا حامل، ثابت قدم دیانت دار۔ اَخلَق: زیادہ کافی، زیادہ مناسب، زیادہ قدرتی۔ خَلَّاق: خالق (باری تعالیٰ)۔ خلیقة: پیدائش، تخلیق، کائنات، قدرت، افتاد طبع، خصوصیت، امتیازی وصف طرہ امتیاز، مخلوقات، جمع خلائق: مخلوقات پیدا کی ہوئی چیزیں۔ اخلاقی: اخلاقی، اخلاقی فلسفی۔ جُرُم اخلاقی: عوام کے اصول اخلاق کے منافی جرم۔ الفلسفة الاخلاقیہ: علم اخلاق، فلسفہ اخلاق، اخلاقیات۔ اَخلَاقِیَة: اخلاقیات، اصول اخلاق، حسن عمل۔ خُلقَانی: پرانے کپڑے بیچنے والا۔ خالِق: تخلیقی، خالق، بنانے والا (باری تعالیٰ)۔ مَخلُوق: پیدا شدہ (جمع مخلوقات و مَخالیق): مخلوق، خلق خدا۔ مُختَلِق: ایجاد کنندہ، (جھوٹی باتیں) گھڑنے والا۔ مُختَلَق: گھڑا ہوا، جھوٹا بنایا ہوا، ایجاد کردہ، تراشا ہوا، بنالیا ہوا، مشتبہ، غلط، ناقابل قبول جمع مُختَلَقَات: جھوٹی باتیں، جھوٹ، دروغ، کذب جعلسازیاں، افسانے۔ خَلِقِین جمع خلاقین: دیگ، کڑھائی، کیتلی، بائلر (boiler)

خلن: الخَلَنج (ن) بیٹر یا بیڑ کی جھاڑیاں۔

○ خُلُنجان: خولنجان، پان کی جڑ۔

خلا: ا۔ خَلَا ـُ خُلُوًّا و خَلَاءً الاناءُ: برتن کا خالی ہونا۔ —المکانُ: جگہ کے رہنے والوں کا کوچ کر جانا جگہ کا رہنے والوں سے خالی ہونا۔ —خَلْوَةً و خَلُوًّا و خَلَاءً بالہٗ: کے دل کا مطمئن ہونا، تسلی حاصل کرنا۔ —الحزنَ: غم سے جدا ہونا صفت خالٍ جمع خُلُوّ۔ کہا جاتا ہے: اِفعَل کذا و خلاك ذَمٌّ: تم

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

یہ کام کرو گے کہ تو تم پر مذمت و ملامت نہیں ہو گی۔
خَلَّی تَخْلِیَةً مکانَهُ: مرنا۔ ۔خَلِیَّةً: اپنے لئے شہد کا چھتہ لینا۔ اَخْلَی اِخلاءً المکان: جگہ کو خالی کرنا یا خالی پانا۔ ۔المکانُ جگہ کا خالی ہونا۔ اِسْتَخْلَی المکانُ جگہ کا خالی ہونا۔ خَلا و مَاخَلا: کلمہ استثناء ہیں اور اِلاّ کے معنی میں آتے ہیں اور فعل سمجھے جاتے ہیں لہٰذا مستثنیٰ کو نصب دیتے ہیں جیسے: جاء اتباعُ الامیر خلا و ماخلا زیداً: زید کے سوا حاکم کے سب پیرو کار آئے۔ یہاں زید خلا کا مفعول ہے۔ خلا سے پہلے ما مصدریہ ہو تو خلا کا فعل ہونا مختص ہو گا ورنہ حرف جر ہو گا جیسے خلا زید: زید کے سوا۔ الخِلْو جمع اخلاء: خالی (مذکر و مؤنث کے لئے) بعض کے نزدیک مؤنث کے لئے خِلْوَة آتا ہے۔ الخَلاء (مص) خالی جگہ۔ مکانٌ خَلاءٌ: سونی جگہ، جگہ جس میں کوئی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے: بَاتَ فِي البلد الخلاء: اس نے سونے شہر میں رات گزاری۔ الخَلِیّ جمع اَخْلِیَاء و خَلِیُّون: خالی، بے فکر، بے غم، جس کی بیوی نہ ہو۔ الخَلِیَّة وہ عورت جس کا نہ خاوند ہو نہ اولاد۔ الخالی جمع اَخْلاء کنوارا یا کنواری۔

۲۔ خَلاَ ـُ خُلُوًّا و خَلاءً الرجلُ کسی جگہ تنہا ہونا۔ ۔خَلْوَةً و خُلُوًّا و خلاءً به و معه و الیه. کے ساتھ تنہائی میں ملنا، اکٹھا ہونا۔ کہا جاتا ہے: خلا الرجل بنفسه مرد تنہا ہوا، منفرد ہوا۔ تَخَلَّی: کسی جگہ (خلوت میں) اکیلا ہونا، تنہا ہونا۔ اَخْلَی اِخْلاءً ه و به و معه سے کسی جگہ (تنہائی میں) ملنا۔ ۔فلاناً معه: کسی کو اپنے ساتھ تنہائی میں ملنے دینا۔ اِخْتَلَی: کسی جگہ تنہا ہونا، اکیلا ہونا۔ اِسْتَخْلَی هُ: سے تنہائی میں ملاقات چاہنا۔ ۔بالملك: بادشاہ سے تنہائی میں ملنا۔ الخَلاء: پاخانہ، کہا جاتا ہے۔ خلاؤك اَقْضَی لحیائك: مکان میں تمہارا تنہا ہونا، تمہاری عیب پوشی کا زیادہ ضامن ہے۔ الخَلْوَة جمع خَلَوات: تنہائی کی جگہ، جائے خلوت۔

۳۔ خَلاَ ـُ خُلُوًّا و خَلاءً علی فلانٍ: کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔

۴۔ خَلاَ ـُ خُلُوًّا و خَلاءً الشیءُ: گزرنا، کہا جاتا ہے: فعلتُهُ لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنَ الشهر: میں نے یہ کام مہینے کی پانچ تاریخ کو کیا۔

۵۔ خلا ـُ خُلُوًّا و خلاءً عن الامر و منه: کسی امر سے بری ہونا، بیزار ہونا۔ الخَلاء: بری۔ کہا جاتا ہے: انا منه خلاء: میں اس سے بری ہوں (یہ مفرد، تثنیہ، جمع مذکر، مونث سب کے لئے یکساں مستعمل ہے)
الخَلِی جمع اَخْلِیاء و خَلِیُّون: بری، کہا جاتا ہے۔ انا خلیٌّ منه: میں اس سے بری ہوں۔

۶۔ خلا ـُ خَلْوَةً و خُلُوًّا و خلاءً بالمکان: کسی جگہ مستقل رہنا۔ ۔لِلامر: کسی کام کے لئے فارغ ہونا، اپنے آپ کو کسی کام میں لگا دینا۔ ۔خُلُوًّا و خلاءً علی الشیءِ: پر اقتصار کرنا، بس کرنا۔ ۔بالشیء: کے ساتھ اکیلا ہونا، میں منفرد ہونا۔ تَخَلَّی لَهُ: کے لئے فارغ ہونا۔

۷۔ خَلاَ ـُ خُلُوًّا و خلاءً به: کے ساتھ فریب کرنا۔

۸۔ خَلاَ ـُ خُلُوًّا و خلاءً عن الشیءِ: کو بھیجنا۔ خَلَّی تَخْلِیَةً الامرَ و عنه: کو چھوڑ دینا۔ ۔سبیلَهُ: کسی کو آزاد کرنا، جانے دینا۔ ۔مکانَهُ: مرنا۔ ۔بینهما: دونوں کو اکٹھا چھوڑنا۔ خَالاَ مُخَالاةً هُ: کو چھوڑ دینا۔ اَخْلَی اِخْلاءً عنه: کو ترک کرنا چھوڑ دینا۔ تَخَلَّی منه و عنه: کو چھوڑ دینا۔

۹۔ خَلَّی تَخْلِیَةً البائعُ بین المشتری و المبیع: دکاندار کا گاہک کو اس کی خریدی ہوئی چیز سپرد کرنا۔

۱۰۔ الخَلِیّ: شہد کی مکھی کا چھتہ۔ الخَلِیَّة جمع خَلاَیَا: بڑی کشتی، تمام زندہ چیزوں کا بنیادی مادہ، بسیط کائنات جو ایک خلیہ سے بنی ہوں جیسے جراثیم جہاں تک مرکب اجسام کا تعلق ہے تو جڑے ہوئے خلیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ لکڑی کے چھوٹے خانے جس میں شہد کی مکھیوں کو رکھا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو اس طرح رکھنے اور ان کے بنائے ہوئے شہد سے فائدہ اٹھانے کا یہ طریقہ بہت قدیم ہے۔ شیر کے رہنے کی جگہ۔

خلی: ۱۔ خَلَی ـِ خَلْیاً النباتَ: گھاس کاٹنا۔ ۔الماشیةَ: جانوروں کے لئے گھاس کاٹنا۔ ۔الشعیرَ فی المخلاة: تو برے میں جو جمع کرنا۔ اَخْلَی المکانُ: جگہ کا زیادہ گھاس والی ہونا۔ ۔الدابةَ: جانور کو گھاس چرانا۔ اِخْتَلَی العشبَ: گھاس کاٹنا۔ اِنْخَلَی الخَلَی: گھاس کا کٹنا۔ الخَلَی واحد خَلاَة جمع اَخْلاء: تر گھاس۔ المِخْلَی: گھاس کاٹنے کا آلہ۔ درانتی المخلاة جمع مَخَالٍ: توبرا۔ گھاس رکھنے کی جگہ۔

۲۔ خَلَی ـِ خَلْیاً الفرسَ: گھوڑے کے منہ میں لگام لگانا۔ ۔اللجامَ من الفرس: گھوڑے کے منہ سے لگام نکال لینا۔

۳۔ خَلَی ـِ خَلْیاً القدرَ: ہانڈی کے نیچے ایندھن ڈالنا، ہانڈی میں گوشت ڈالنا۔

۴۔ خَالَی مُخَالاةً هُ: کو پچھاڑنا، کو فریب دینا، دھوکا دینا۔

۵۔ اِخْلَوْلَی اِخْلِیلاءً الرجلُ: آدمی کا دودھ پینے میں ہمیشگی اختیار کرنا۔

۶۔ الخَلِیُّوز او السِّلُّولُوز (ك): ایک قدرتی مادہ جو لکڑی روئی اور کتان وغیرہ کے ریشے بناتا ہے اور کاغذ، مصنوعی ریشم اور دھماکے سے پھٹنے والے مادوں کے بنانے میں کام آتا ہے۔ (Cellulose)۔

✪ خلو: خَلاَ ـُ خُلُوًّا و خَلاءً: خالی ہونا۔ ۔خُلُوًّا عن / من: سے آزاد ہونا۔ ۔مِن: سے محروم ہونا، خالی ہونا، کو نہ رکھنا، کا ضرورت مند ہونا، کی ضرورت رکھنا، کی اشد ضرورت ہونا۔ ۔(عہدہ، آسامی) خالی ہونا۔ خَلْوَةً مع اِلی ب. کے ساتھ تنہا ہونا۔ ۔: الگ تھلگ ہونا، تنہائی میں ہونا۔ ۔لِلْمداولة: غور و خوض، سوچ بچار کے لئے تخلیہ میں جانا (عدالت، جیوری کا) ۔الی: سے راز و نیاز کے لئے تخلیہ اختیار کرنا یا سے مشورہ وغیرہ کے لئے ملنا۔ ۔ل: کو توجہ دینا، کو پوری توجہ سے کرنا۔ خلا به: سے الگ ہو جانا، کو چھوڑ دینا، کا مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑنا، کو مصیبت میں ڈالکر چلے آنا۔ ۔ه: کے پاس سے گزر جانا۔ ۔: (وقت کا) گزرنا۔ خلا لهُ الجوُّ: کو تصرف کی آزادی ملنا، کو کھلا موقع ملنا۔ لایَخْلُو من جمال: یہ تھوڑے بہت حسن کے بغیر نہیں) لا یخلو من مبالغة: یہ قدرے مبالغہ آمیز ہے۔ لایخلو من فائدة: یہ بالکل ناکارہ نہیں۔ خلا الی نفسه: تن تنہا ہونا، اکیلا ہونا، اپنے آپ سے راز و نیاز میں محو ہونا۔ اپنے آپ سے دل کی بات کہنا، اپنے آپ سے مشورہ کرنا، اپنا دل ٹٹولنا۔ مُنْذُ عشر سنواتٍ خَلَتْ: گزشتہ دس سالوں سے خَلَّی ه: کو خالی کرنا، خالی کرا نا، سے نکل آنا۔ ۔ه: کو چھوڑنا، تنہا چھوڑنا، خالی کرا نا، سے نکل آنا۔ ۔ه: کو چھوڑنا، تنہا چھوڑنا، ۔ه/ب: کو چھوڑنا، جانے دینا۔ ۔عن: سے باز رہنا، پرہیز کرنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، کو چھوڑنا، ترک کرنا۔ خَلَّی سبیلَهُ: کو جانے دینا۔ خَلَّی بین فلان و بین الشیءِ: کو مکمل اختیار دینا، مختار کرنا، کو میں یا کے ساتھ من مانی کرنے دینا، میں کسی سے قطع نظر کر لینا، میں کسی پر اثر انداز نہ ہونا، سے میں نہ ٹکرانا کے لئے کسی کام وغیرہ کا راستہ کھول دینا۔ خَلِّ عنك هذه المیول: اس قسم کی خواہشات سے باز رہو۔ اَخْلَی ه من: کو سے خالی کرنا، کی مقدار، حجم، قیمت وغیرہ بہت کم کر دینا۔ ۔ه: (کسی جگہ) کو خالی کرنا، (شہر) کو خالی کر جانا، سے نکل جانا۔ اَخْلَی سبیلَهُ: کو جانے دینا، کو رہا کرنا۔ اَخْلَی السبیلَ لِه: کے لئے راستہ کھولنا۔ اَخْلَی طرفَهُ: کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

برخواست کرنا، سبکدوش کرنا، دور بھیجنا۔ کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، اَخْلَی سمعَهُ لِ: کے لئے ہمہ تن گوش ہونا، کو غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ اَخْلَی بینه و بین مایقول: کو جو کچھ وہ کہنا چاہے کہنے دینا، کو آزادی سے بات کرنے دینا۔ تَخَلَّی من / عن: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سے دست کش ہونا سے پیچھے ہٹنا، دور ہونا، عہدہ وغیرہ چھوڑ دینا۔ —عن ل: کو کے سپرد کرنا، حوالے کرنا، کو کے لئے چھوڑنا، —عن: (عہدہ) چھوڑ دینا۔ اِخْتَلَی مع / ب: کے ساتھ تنہا ہونا، پرے ہو جانا، دور ہو جانا، ہٹنا۔ خِلْوٌ من: سے خالی، محروم، کے بغیر خُلُو: خالی ہونا، خلا۔ —من: سے آزادی۔ خلا و ماخلا (منصوب یا مجرور اسم وغیرہ سے پہلے) کے سوا، کے سوائے۔ خَلَاء: خالی ہونا، خلا، خالی جگہ، اسامی، کھلا علاقہ۔ (تَحْتَ الخلاء بافی الخلاء: کھلے آسمان کے نیچے، کھلی ہوا میں، گھر سے باہر، میدان میں) بیت الخلاء: پاخانہ، بیت الخلاء طہارت خانہ، آبدست خانہ۔ خَلْوَة جمع خَلَوات: علیحدگی، خلوت، تنہائی، خلوت گزینی، گوشہ نشینی، الگ تھلگ جگہ، عزلت گزینی، آرام، آرام کرنے کی جگہ، تنہائی کی جگہ، گوشہ، کنج تنہائی، نہاں خانہ، الگ تھلگ کمرہ، کٹیا، جھگی، خانقاہ، دروزیوں کے مذہبی اجتماع کا ہال کمرہ، عارضی دکان، عَلَی خَلْوَة: تنہا، آرام گاہ میں گوشہ تنہائی میں۔ خَلْوَةُ الحَمَّام: حمام، غسل گاہ۔ خَلَوِی: اکیلا، یکا و تنہا، گوشہ نشین، الگ تھلگ، گوشہ نشینی یا عزلت گزینی کی، دور افتادہ، کھلے علاقہ میں واقع، دیہی، دیہاتی، دیہاتی، علاقہ، بیتٌ خَلَوِی: حویلی جو کھیتوں، جنگل وغیرہ میں واقع ہو (Country house)۔ خَلِیّ جمع اَخْلِیَا من: سے آزاد، سے خالی، سے محروم، کے بغیر۔ خَلِیُّ البال: ذمہ داریوں اور پریشانیوں کے بغیر، آرام طلب، بے پروا، لاابالی۔ خَلِیَّة جمع خَلَایَا: چھتہ، مہال، نحل گاہ زندہ مادہ کی وحدت۔ الخَلِیَّةُ الحَیَوِیَّةُ الأُولَی: مادہ اولیٰ مادہ حیات (Proto plasm) مِن خَلَایا: کے اندر سے، کی وجہ سے۔ مِخْلَاة: توبرا۔ تخلیة: خالی کرنا۔ انخلاء، خالی کرنا، فضلہ خارج کرنا، نکالنا، نالی بنانا، صاف کرنا، انخلا۔ — اِخلاءُ سبیله: کی رہائی۔ تَخَلٍّ عن: سے واگزاشت، دست کشی، دست برداری، کو سونپ دینا، حوالے کرنا۔ اِخْتِلَاء: خلوت، تخلیہ، علیحدگی، تنہائی، عزلت، اکیلا پن۔ خالٍ: خالی، کھلا، خالی (عہدہ، آسانی) آزاد، بے قابو بے لگام، بے روک ٹوک، —من: سے آزاد، سے محروم خال من الفائده: بیکار، بے سود۔ خالٍ من السُّکّان: غیر آباد، بے آباد۔ خالی الدین من: سے آزاد، جو کا پابند نہ ہو۔ خالی البال: لاابالی، بے پروا، آرام طلب ذمہ داریوں اور پریشانیوں کے بغیر۔ (جمع خَوَالٍ): گزرا ہوا (وقت) القرونُ الخالیة: گزشتہ صدیاں۔ فی الایام الخَوَالی: پچھلے دنوں میں، گزشتہ دنوں میں۔

خم: ا۔ خَمَّ ـُ خَمًّا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ —البئرَ: کنویں کو صاف کرنا۔ تَخَخَّمَ ماعلی الخِوان: دسترخوان کا بقیہ کھانا، کھانا۔ اِخْتَمَّ البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ الخُمامَة: کوڑا کرکٹ، خاک چاہ۔ کنوئیں کی مٹی۔ کھانے کے بکھرے ہوئے ریزے۔ المِخَمَّة: جھاڑو۔ قَلْبٌ مَخْمُوم: حسد و کینہ سے پاک دل۔

۲۔ خَمَّ ـُ خَمًّا الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا۔ الخَمِیم: تازہ دودھ، تازہ تازہ دوہا ہوا دودھ۔

۳۔ خَمَّ ـُ خَمًّا فلاناً: کی تعریف کرنا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے: هو یَخُمُّ ثیابَ فلان: وہ اس کی تعریف کرتا ہے، مدح سرائی کرتا ہے۔ الخَمِیم: ممدوح، تعریف کیا ہوا۔

۴۔ خَمَّ ـِ خَمًّا و خُمُومًا و أَخَمَّ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا صفت۔ خَمّ و خَامّ و مُخِمّ۔ —اللبنُ: دودھ کا بگڑ جانا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لایَخِمُّ: فلاں شخص کی سخاوت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ خُمَّ الدجاجُ: مرغیوں کا ڈربے میں بند کیا جانا۔ الخُمّ جمع خِمَمَة: مرغیوں کا ڈربہ۔ الخِمّة: مخرب اخلاق عورت (عام زبان کا لفظ)

۵۔ اِخْتَمَّ الشیءَ: کو کاٹنا۔

۶۔ الخِمّ: خالی باغ۔ عام لوگ کہتے ہیں: فلانٌ خِمُّ او خِمةُ نوم: فلاں شخص بہت سوتا ہے۔ الخُمّان و الخَمّان و الخِمّان: رذیل لوگ، پرانا ردی سامان، ناکارہ درخت۔ الخَمِیم: سست و کاہل شخص۔

۷۔ خَمْخَمَ: ناک میں بولنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: خَمْخَمَ الماءُ وغیرہ: پانی وغیرہ بدبودار ہو گیا، یہ بھی کہتے ہیں: فلانٌ یُخَمْخِمُ: فلان شخص کھانے میں بہت ہذیان بکتا ہے۔ الخُمْخُم (ح): ایک سمندری جانور الخِمْخِم (ن): ایک خاردار پودہ۔

○ خَمَّ ـُ خَمًّا ہ: (کمرہ) میں جھاڑو دینا۔ ـِ خَمًّا و خُمُومًا: بدبو دینا، سڑنا، گلنا، بگڑنا، خراب ہونا۔ خُمّ جمع اَخْمَام: مرغیوں کا ٹوکرا، ٹاپا، ڈربہ، مرغی خانہ۔ خَمَّة: بدبو، سڑانڈ، عفونت۔ خَامّ: بدبودار، متعفن، گلا سڑا، خراب، گندا۔ مُخِمّ: بدبودار، گلا سڑا، متعفن، خراب، گندا۔

خمج: خَمِجَ ـَ خَمَجًا: بیماری یا تکان کی وجہ سے سست ہونا۔ —اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ —دینُهُ او خُلقهُ: کے دین یا اخلاق کا خراب ہونا۔ — فلاناً: کو برائی سے یاد کرنا۔

○ خَمِجَ ـَ خَمَجًا: خراب ہونا، سڑنا، گلنا سڑنا، بگڑنا۔

خمد: ا۔ خَمَدَ ـُ و خَمِدَ ـَ خَمْداً و خُمُودًات النارُ: آگ کی بھڑک کا ختم ہونا اور چنگاریوں کا نہ بجھنا۔ —الحُمَّی: بخار کے جوش کا ختم ہونا۔ اَخْمَدَ النارَ: آگ کی لپٹ کو بجھانا۔ الخَمُّود: بجھانے کے لئے آگ کو دبانے کی جگہ۔

۲۔ خَمَدَ ـُ و خَمِدَ ـَ خَمْداً و خُمُوداً المریضُ: بیمار کا بیہوش ہونا، مرنا۔ اَخْمَدَ الرجلُ: آدمی کا بے حرکت ہونا، خاموش ہونا۔ —اَنْفَاسَهُ: کو مار ڈالنا، ذلیل کرنا۔

○ خَمَدَ ـُ خُمُوداً: (آگ کا) بجھ جانا، —: ختم ہو جانا، مر جانا، فنا ہونا، گھٹنا، کم ہونا، کم ہو جانا، فرو ہو جانا، خاموش ہونا۔ اَخْمَدَ ہ: (آگ) بجھانا، — ہ: کو بے حرکت کرنا، (جوش) فرو کرنا، ٹھنڈا کرنا، دھیما کرنا، (غصہ) کم کرنا، نرم کرنا کو فرو کرنا، دبا دینا، بجھا دینا، زائل کرنا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، قابو میں کرنا، دبانا، ہلکا کرنا، نرم کرنا، بے حس کرنا، کند کرنا، کا گلا گھونٹنا، کو مار ڈالنا (مجازاً) خُمُود: نیستی، فنا، باقی نہ رہنا، مٹنا، زوال منزل، اختتام، خواری، ذلت، پستی، بگاڑ، ابتری، انحطاط، نقص، خرابی، سکوت، خاموشی، آہستگی، سناٹا، گہری خاموشی، سکون، طمانیت، قرار، ناقابل حرکت ہونا، بے حس و حرکت ہونا۔ اِخْمَاد: بجھانا، ٹھنڈا کرنا، ساکن کرنا، بند کرنا، روکنا دھیما کرنا، تشفی، تسکین، رفع کرنا، دور کرنا، ختم کرنا چپ کرانا، تسکین دینا، نرم کرنا، زیر کرنا، مغلوب کرنا قابو میں کرنا، دباؤ، ہلکا کرنا، کند کرنا (بغاوت) فرو کرنا، دبا دینا خامِد: بجھنے والا، گھٹنے والا، کم ہونے والا، فرو ہونے والا بیٹھ جانے والا، پرسکون، پرسکوت، ساکن، مطمئن، بے حس و حرکت خاموش، ساکت۔

خمر: ا۔ خَمَرَ ـِ خَمْرًا ہُ: کو چھپانا۔ الشهادةَ: شہادت (گواہی) چھپانا، —فلاناً: سے شرمانا۔ خَمِرَ ـَ خَمَرًا عنه: سے چھپنا، پوشیدہ ہونا، —عنه الخبرُ: سے خبر کا پوشیدہ رہنا۔ خَمَّرَ وجهَهُ: چہرہ ڈھانپ لینا۔ — بیتَهُ: گھر میں جما رہنا۔ خَامَرَ مُخَامَرَةً به: کے ذریعے چھپنا۔ —بیتَهُ: گھر میں جما

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رہنا: اَخْمَرَ: چھپنا۔ -الشیءَ: کو چھپانا -الأمرَ: کسی امر کو پوشیدہ رکھنا، چھپائے رکھنا۔ ت الارضُ: زمین میں گھنی جھاڑیوں کا بہت ہونا۔ -لہ: سے کینہ رکھنا۔ تَخَمَّرَ و اِخْتَمَرَتِ المرأۃُ: عورت کا دوپٹہ اوڑھنا۔ الخَمَرُ: گھنی جھاڑی یا درخت (آپ کہتے ہیں: تَوارَی الصیدُ عنی فی خَمَرِ الوادی: شکار وادی کی گھنی جھاڑی میں مجھ سے چھپ گیا) لوگوں کی جماعت اور بھیڑ۔ الخَمِرُ: زیادہ گھنی جھاڑیوں والی جگہ۔ الخِمْرُ: کینہ، دشمنی۔ الخُمار والخَمار والخَمْرۃ: لوگوں کی کثرت اور ان کی بھیڑ۔ الخِمار جمع اَخْمِرَۃ و خُمْر و خُمُر: دوپٹہ، اوڑھنی، پردہ۔ الخُمْرۃ جمع خُمَر: چھوٹی چٹائی۔

۲۔ خَمِرَ - خَمَرًا الشیءُ: چیز کا بدل جانا۔ خامَرَ: بیع میں دھوکا دینا۔ -الشیءُ الآخرَ: ایک چیز کا دوسری چیز میں مل جانا۔ -القلبَ: دل میں سرایت کرنا، رچ بس جانا۔ -ہ الداءُ: بیماری کا کسی کے اندر تک اتر جانا۔ الخَمْرَۃ: مست کرنے والی خوشبو۔ الخَمْرَۃ و الخَمَرَۃ: مست کرنے والی خوشبو۔ الخِمار: کہا جاتا ہے: ماشَمَّ خِمارَکِ؟ تجھ کو ایسی کیا چیز پیش آئی جس نے تیری حالت بدل ڈالی؟

۳۔ خَمَرَ - خَمْرًا الرجلَ: کو شراب پلانا۔ اِخْتَمَرَ العصیرُ: رس کا شراب بن جانا۔ الخَمْرُ: انگور کی شراب، ہر نشہ آور چیز۔ الخَمْرَۃ: انگور کی شراب۔ رجلٌ خَمِرٌ: مست و مدہوش آدمی۔ الخُمار: شراب کی وجہ سے ہونے والا دردِ سر۔ الخُمْرۃ جمع خُمَر: شراب کی وجہ سے ہونے والی تکلیف اور درد سر۔ شراب کی تلچھٹ۔ الخَمْرِیّ من الالوان: سرخی مائل سیاہ رنگ۔ الخَمّار: شراب فروش۔ الخِمِّیر و المُسْتَخْمِر: بہت شراب پینے والا۔ المَخْمُور: شراب سے مست و مدہوش۔ الخَمّارۃ: شراب بیچنے کی جگہ۔

۴۔ خَمَرَ - خَمْرًا العجینَ: آٹے میں خمیر دینا۔ خَمَّرَ العجینَ: آٹے میں خمیر دینا۔ اَخْمَرَ العجینَ: آٹے میں خمیر دینا۔ اِخْتَمَرَ العجینُ: آٹے کا خمیر ہو جانا۔ الخَمِیر: خمیری روٹی، خمیرا آٹا۔ الخَمِیرۃ جمع خَمائر: خمیر، کیمیاوی تبدیلیاں لانے والا ایک قدرتی مادہ۔ الخُمْرۃ جمع خُمَر: خمیر کرنے کا برتن۔ خُمْرَۃُ اللبن: دودھ کو جلد جمانے والی چیز الاختمار (ک): خمیر اٹھانے کا عمل۔

۵۔ اَخْمَرَ الشیءَ: کو غافل کرنا۔

۶۔ اَخْمَرَہُ الشیءَ: کو کوئی چیز تحفہ کے طور پر دینا۔

○ خَمَرَ - خَمْرًا و خَمَّرَ ہ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا، ڈھانپنا، ڈھانکنا۔ -ہ: میں خمیر ڈالنا، کو خمیر کرنا، میں خمیر اٹھانا۔ خامَرَ ہ: میں سرایت کرنا، میں رچ بس جانا سے خلط ملط ہو جانا، مل جانا۔ -ہ: (خیال، احساس وغیرہ کا) کسی پر قابو پانا، قابض ہونا، اثر ڈالنا۔ اَخْمَرَ ہ: میں خمیر ڈالنا، کو خمیر کرنا، میں خمیر اٹھانا، کو دل میں رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ -ل: کے خلاف بغض یا کینہ رکھنا آزردگی محسوس کرنا۔ تَخَمَّرَ: خمیر اٹھنا، خمیر اٹھنے کی حالت میں ہونا، خمیر کرنا، (عورت کا) سر اور چہرہ چھپانا، تَخامَرَ علی: کے خلاف سازش کرنا۔ اِخْتَمَرَ: خمیر اٹھنا، خمیر اٹھنے کی حالت میں ہونا، خمیر کرنا، پکنا، پک جانا (کسی کے ذہن میں کوئی خیال (یہ مجازی استعمال ہے)۔ خَمْر (مذکر و مؤنث) جمع خُمُور: شراب (جمع) الکوحلی مشروبات، شراب۔ خَمْرۃ: شراب۔ خَمْرِی: سنہری سانولا سرخی مائل سانولا، کانسی رنگ کا، (فی الحقیقت شرابی رنگ کا)۔ خَمْرِیّۃ جمع خَمْرِیات: بادہ پرست شعر۔ خِمار و اَخْمِرَۃ و خُمُر: دوپٹہ، اوڑھنی۔ خُمار: خُمار: نشہ اترنے کا اثر۔ خَمِیر: خمیرہ آٹا، خمیری روٹی، پکا، شیریں، رسیلا، خمیر۔ خَمِیرۃ جمع خَمائر: خمیر، کیمیاوی تبدیلیاں لانے والا ایک قدرتی مادہ۔ (مجازاً) مرکزی حصہ، مرکزہ، (جوہری) مرکز، بنیاد جس سے کوئی بڑی چیز بڑھتی ہے)۔ خَمّار: شراب فروش، شراب کی دکان والا۔ خَمّارۃ: شراب کی دکان، شراب خانہ۔ خِمِّیر: پکا شرابی، بلا نوش، ہمیشہ بدمست رہنے والا، تَخْمِیر: خمیر ڈالنا، خمیر کرنا، خمیر اٹھانا، خمیر۔ اِخْتِمار: خمیر اٹھانے (کا عمل) مَخْمُور: بدمست شرابی مدہوش، مست، متوالا مخمور۔ مُخْتَمِر: خمیر اٹھانے والا خمیر اٹھا ہوا، الکوحلی۔

خمس: خَمَسَ - خَمْسًا القومَ: قوم کا پانچواں ہونا، قوم کے مال کا پانچواں حصہ لینا۔ -المالَ: مال کا پانچواں حصہ لینا۔ -الحبلَ: رسی کو پانچ لڑیوں سے بٹنا۔ خَمَّسَ الشیءَ: چیز کو پانچ رکنوں والا بنانا۔ اَخْمَسَ القومُ: پانچ ہونا۔ الخُمْس و الخُمُس جمع اَخْماس: پانچواں حصہ۔ کہا جاتا ہے: ضَرَبَ اَخْماسًا لأسْداس: اس نے مکر و فریب کی کوشش کی۔ خُماسَ و مَخْمَسَ: پانچ پانچ۔ (مذکر و مؤنث کے لئے یکساں مستعمل ہے)۔ الخَمْسَۃ (ع ح): پانچ (مذکر معدود کے لئے) خَمْس: پانچ (مؤنث معدود کے لئے)۔ الخُماسِیّ: پانچ (حرفوں) والا۔ پانچ زاویہ شکل۔ پانچ اضلاعی شکل۔ الخُماسِیَّۃ: کہا جاتا ہے: جاریۃ خُماسِیَّۃ: پانچ سالہ لڑکی۔ خَمْسُون: پچاس (مرفوع حالت میں) نصبی اور جری حالت میں خَمْسِین آتا ہے۔ عیدُ الخَمْسِین: طور سینا پر دس احکام کے نزول کی سالگرہ۔ سفید اتوار، ایسٹر کے بعد ساتویں اتوار۔ اسی اتوار کو رسم اصطباغ ادا ہوتی تھی۔ اسے عید العَنْصَرۃ بھی کہا جاتا ہے۔ الخَمِیس: ہفتے کا پانچواں دن، جمعرات۔ (اع): لشکر جو پانچ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ حصے۔ المقدمۃ، القلب، المیمنۃ، المیسرۃ اور الساقۃ ہیں۔ رُمْحٌ خَمِیس و مَخْمُوس: پانچ گز کا نیزہ۔ المُخَمَّس: پانچ ارکان والا، بڑے بڑے بوجھ اٹھانے کا آہنی آلہ جس میں کئی چرخیاں لگی ہوتی ہیں۔ ہ پانچ متساوی الاضلاع شکل۔ التخمیس عند الشعراء: بیت کے دو حصوں میں تین حصوں کا اضافہ۔

○ خَمَّسَ ہ: کو پانچ گنا کرنا۔ پانچ سے ضرب دینا، کو پنج گوشہ، پنج زاویہ یا پنج اضلاعی بنانا، کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنا۔ خُمْس جمع اَخْماس: پانچواں حصہ۔ ضَرَبَ اَخْماسَہ فی اَسْداسِہ و ضَرَبَ اخماسًا لاسداس: نکلنے کے راستہ کی تلاش میں اپنے دماغ کو تکلیف دینا، حواس باختہ ہونا، ریشہ دوانی کرنا، سازش کرنا۔ ساز باز کرنا۔ خَمْسَۃ (مؤنث خَمْس) پانچ۔ خَمْسَۃَ عَشَرَ (مؤنث خَمْسَ عَشْرَۃ) پندرہ خَمْسُون: پچاس۔ عید الخمسین: ایسٹر کے بعد کا ساتواں اتوار، سفید اتوار، طور سینا پر دس احکام کے نزول کی سالگرہ (یہودیوں کا تہوار۔ اور الخمسین: سفید اتوار، ایسٹر کے بعد کا ساتواں دن۔ ایام الخماسین: ایسٹر اور سفید اتوار کے درمیان تقریباً پچاس دنوں کا عرصہ۔ خَمْسِین و خَماسِین: مصر میں چلنے والی گرم جنوبی ہوا۔ عید خَمْسِینِیّ: پچاسویں سالگرہ خَمِیسُ الفِصْح، خَمِیس الأسرار اور خَمِیس العَہد: ایسٹر سے پہلی جمعرات۔ خَمّاس جمع خَمامِسَۃ: بٹائی پر کاشت کرنے والا کسان جو فصل کا پانچواں حصہ اپنی مزدوری کے طور پر لیتا ہے۔ خُمَیْسَۃ: نظر بد سے بچنے کا ہاتھ کی شکل کا ایک زیور جو عورتیں اور بچے پہنتے ہیں۔ الخامِس: پانچواں، خُماسِیّ: پانچ گنا، پانچ حصوں والا، پانچ خانوں والا، پانچ رکنی، پانچ گوشی، پانچ اضلاعی، پنج گوشہ شکل، پنج اضلاع اور پنج زاویہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شکل۔ ایک ہی آواز سے ادا ہونے والے پانچ لفظوں پر مشتمل بیت۔

خمش: خَمَشَ ـِ خَمْشاً و خُمُوشاً الوجهَ: چہرے پر خراش لگانا، تھپڑ مارنا۔ خَمَّشَ ہٗ: کو زیادہ خراشیں لگانا۔ الخُمش جمع خُمُوش: خراش۔ الخُماشة جمع خُمَاشات: ہلکا زخم، ایسا زخم جس پر بدلہ مقرر نہ ہو۔ الخَمُوش (ح): مچھر۔

۞ خَمَشَ ـِ خَمْشاً و خَمَّشَ ہٗ: (چہرہ، جلد) پر (ناخنوں سے) خراشیں لگانا۔ خَمْش جمع خُمُوش: خراش، خراش کا نشان، نشان، داغ۔ خُمَاشة جمع خُماشات: خراش، نشان، داغ۔

خمص: اِخْمَصَ ـُ خَمْصًا و خُمُوصًا الجرحُ: زخم کا ورم جاتا رہنا۔ خَمْصًا و خُمُوصًا و مَخْمَصَةً ہُ الجوعُ: کو بھوک کا دبلے پیٹ والا کر دینا۔ و خَمُصَ ـُ خَمْصًا و خُمُوصًا و مَخْمَصَةً و خَمِصَ ـَ خَمِيصاً البطنُ: پیٹ کا خالی ہونا، دبلا ہونا۔ اِنْخَمَصَ الجرحُ: زخم کا ورم جاتا رہنا۔ الخَمْصَة: بھوک۔ خَمِيصٌ و خُمْصانٌ و خُمُصانٌ جمع خِماصٌ مؤنث خَمِيصَةٌ و خُمْصَانَةٌ جمع خِمَاصٌ و خُمْصانات و خُمُصانات الحشى: دبلے پیٹ والا۔ خالی پیٹ والا۔ اَخْمَصُ جمع اَخَامِصُ البدن: جسم کا درمیانی حصہ۔ المَخْمَصَة (مص): پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا۔

۲۔ تَخَامَصَ الليلُ: رات کی تاریکی کا کم ہونا۔

۳۔ تَخَامَصَ عنه: سے بچنا، ایک طرف ہونا۔ اَخْمَصُ القَدَم جمع اَخَامِص: تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے نہ لگے۔ اس سے پورا قدم بھی مراد لیا جاتا ہے۔

۴۔ الخَمِيصَة جمع خَمائِص: سیاہ رنگ کا چورس کپڑا۔

۞ خَمَصَ ـُ و خَمِصَ ـَ خَمْصًا: (پیٹ کا) خالی ہونا، بھوکا ہونا۔ خَمِيصٌ و خَمِيصُ و خميص الحشا: بھوکا، خالی پیٹ والا۔ اَخْمَصُ القَدَم جمع اَخَامِص: پاؤں کا دھنسا ہوا تلوا۔ مِن الرأس الى اخمص القَدَم: سر سے پاؤں تک۔

خمط: اِخْمَطَ ـُ خَمْطًا و خُمُوطًا و خَمِطَ ـَ خَمَطًا اللبنُ او السِّقاءُ: دودھ یا مشک کا خوشبودار ہونا یا کی بو میں تغیر آ جانا۔ صفت۔ خَمْط و خَامِط۔ الخَمْط (مص): ہر کھٹی یا کڑوی چیز۔ الخَمْطَة و الخَمْطَة من اللبن: دودھ کی بو۔

۲۔ خَمَطَ ـِ اللبنَ: دودھ کو کسی برتن میں ڈالنا۔

۳۔ خَمَطَ ـِ خَمْطًا اللحمَ: گوشت کو بھوننا۔ الخَمَّاط: بھوننے والا۔ خَمِيط: بھنا ہوا گوشت۔

۴۔ خَمِطَ ـَ خَمَطًا الرجلُ: تکبر کرنا۔ تَخَمَّطَ: تکبر کرنا۔

۵۔ خَمِطَ ـَ خَمَطًا الرجلُ: غضبناک ہونا۔ تَخَمَّطَ: غضبناک ہونا۔ الفحلُ: اونٹ کا بلبلانا۔ البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا۔

۶۔ الخَمْط: ہر درخت کا تھوڑا پھل، ہر بے کانٹے والا درخت۔

خمع: خَمَعَ ـَ خَمْعًا و خُمُوعًا و خَمَعَانًا الضبعُ: بجو کا لنگڑا کر چلنا۔ الخامِعَة جمع خَوَامِع (ح): بجو۔ الخُمَاع: لنگڑا پن۔ الخِمْع جمع اَخْماع: بھیڑیا، چور۔ الخَيْمَع و الخَمُوع: بدکار عورت۔

۞ خَمَعَ ـَ خَمْعًا و خُمُوعًا: لنگڑانا، لنگڑا کر چلنا۔

خمل: اِخَمَلَ ـُ خُمُولاً ذِكرُهٗ او صوتُهٗ: کے ذکر یا کی آواز کا پوشیدہ ہونا، کمزور ہونا۔ خَمِلَ: جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ اَخْمَلَہٗ: کو گمنام کرنا۔ الخَامِل (فا) جمع خَمَل من الرجال: گمنام آدمی۔ الخُمَال: جوڑوں کی بیماری۔

۲۔ خَمَلَ ـُ خَمْلاً البسرَ: کھجوروں کو نرم کرنے کے لئے گھڑے وغیرہ میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے خَمَلَهُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت میں ڈالے۔ الخَمِيل: نرم غذا۔

۳۔ اَخْمَلَتِ الارضُ: زمین کا بہت گنجان درختوں والی ہونا۔ اِخْتَمَلَت الماشيةُ: جانور کا اچھی گھاس والی زمین میں چرنا۔ الخَمِيلة جمع خَمَائِل: بہت گنجان اور گھنا درخت۔ بہت درختوں والی زمین۔

۴۔ اَخْمَلَ القطيفةَ: چادر کو روئیں دار بنانا۔ الخَمْل: کپڑے کا رواں۔ و الخُمالة: شترمرغ کے پر۔ الخَمْلة: چادر، پشم دار کپڑا۔ المُخْمَل: پشم دار کپڑا۔ الخَمِيل: روئیں دار کپڑے۔ الخَمِيلة جمع خَمَائِل: چادر، شترمرغ کے پر۔

۵۔ الخَمْلة جمع خَمَلات: راز، پوشیدہ، برائیاں، پوشیدہ عادتیں۔ الخُمال و الخُمَالي و الخِمْل و الخُمْل: مخلص دوست۔ الخَمِيل واحد خَمِيلة: گھرا بادل۔ الخَمِيلة جمع خَمَائِل: پست ونشیبی زمین۔

۞ خَمَلَ ـُ خُمُولاً: نامعلوم ہونا، غیر معروف ہونا، گمنام ہونا۔ کمزور ہونا، سست رفتار ہونا۔ خَمِل: سست رفتار، سست، مٹھا، کند ذہن، بے ہمت، بے ذوق۔ خُمُول: گمنامی، کمزوری، سستی ... ہمتی، کم ہمتی، آرام طلبی، نکما ہونا، مٹھا پن، بے عملی، بے حسی، کٹھور پن، ذہنی کاہلی، بے رخی، بے اعتنائی، بے پروائی، نیم خوابی، اونگھ۔ خَمِيلَة جمع خَمَائِل: گھنے درختوں والی جگہ، جھاڑی بن، جھاڑی، جھاڑ جھنکار والا علاقہ۔ خَامِل: نامعلوم، گمنام، غیر ممتاز، غیر اہم، چھوٹا، کمزور، سست رفتار، مٹھا، سست، بے ہمت۔ مُخْمَل: مخمل، مخمل جیسا کپڑا۔ مُخْمَلِيّ: مخملی۔ جلد مُخْمَلِيّ: ہرن کی کھال، میشہ۔

خمن: خَمَنَ ـُ خَمْنًا و خَمَّنَ الشيءَ: کا تخمینہ لگانا کی قیمت لگانا، کا اندازہ کرنا، کے بارے میں قیاس آرائی کرنا۔ الخَمَن: بدبو۔ الخَامِن: گمنام، غیر مشہور۔ الخَمَّان: کمزور نیزہ، گھٹیا درجہ کا آدمی۔ کہا جاتا ہے هم خَمَّانُ الناس: وہ کم درجے کے لوگ ہیں۔ الخَمَّانة: نیزہ کی کمزور چھڑ۔

۞ خَمَّنَ: قیاس کرنا، گمان کرنا، اندازہ کرنا، اٹکل سے بتانا، قیاس آرائی کرنا۔ ہ: کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنا۔ ہ: کا اندازہ لگانا، کی قیمت لگانا، کا تخمینہ لگانا، کو جانچنا، کا اندازہ کرنا۔ تخمين: تخمینہ، اندازہ، تشخیص، جانچ، تعین، رائے۔ تَخْمِينًا اور علی تَخْمِين: تقریباً، اندازاً۔ مُخَمِّن: قیمت تشخیص کرنے والا، تعین کرنے والا، ٹیکس مقرر کرنے والا، تخمینہ لگانے والا، قیمت لگانے والا۔

خنّ: اِخَنَّ ـِ خَنِينًا: ناک میں بولنا، یا رونا یا ہنسنا صفت: اَخَنّ۔ الخُنَّة: گنگناہٹ، ناک کی آواز۔ الخُنان و الخِنَان: اونٹوں کا زکام، طب: ناک کی بیماری، (طب) پرندوں کے حلقوں میں لگنے والی بیماری۔ المَخَنَّة: گنگناہٹ، ناک کی آواز، ناک۔

۲۔ خَنَّ ـُ خَنًّا المالَ: مال لینا۔

۳۔ خَنَّ ـُ خَنًّا القومَ: قوم کی حریم میں داخل ہونا۔ المَخَنَّة: حریم۔

۴۔ اِخَنَّ ہٗ: کی عقل کو چھین لینا صفت: مخنون، (قیاس کی رو سے مُخَنّ ہونی چاہئے۔)

۵۔ اِسْتَخَنَّت البئرُ: کنوئیں کا بدبودار ہونا۔

۶۔ الخُنان: آسودگی، زندگی کا آرام۔ المِخَنّ: لمبا آدمی۔ المَخَنَّة: گھر کا درمیان، صحن، واضح راستہ، راستہ کا آغاز، شروع وادی کی تنگ جگہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مَخَنَّة لفلان: وہ فلاں شخص کے کھانے کی چیز ہے۔

۷۔ خَنْخَنَ خَنْخَنَةً: ناک سے بولنا۔ فی کلامه: غیر واضح بات کرنا، خنخنانا۔

۞ خَنَّ ـِ خنيًا: ناک سے بولنا، ناک سے حرف کی آواز

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نکالنا، غنغنی آواز نکالنا۔ خُنَّة: ناک کی غن غنی آواز۔ خَنین: غن غنی۔ اَخَنّ مونث خَنَّاء: ناک سے بولنے والا۔ خُنّ جمع اَخْنَان: مرغی کا ٹاپا یا کھڈا، ٹوکرا، پنجرہ۔

خنب: ۱۔ خَنِبَ ـ خَنَبًا: زکام والا ہونا۔ تَخَنَّبَ: تکبر سے ناک چڑھانا۔ الخَنَب (طب): زکام۔ ناک کی بیماری۔ الخِنَابَة و الخُنَابَة: تکبر۔ الخِنَابَتَان و الخُنَابَتَان: ناک کے دونوں نتھنے۔

۲۔ خَنِبَ ـ خَنَبًا: لنگڑانا۔

۳۔ خَنِبَ ـ خَنَبًا: کمزور ہونا۔ اَخْنَبَهُ: کو کمزور کرنا۔ الخَنَاب: بے وقوف۔

۴۔ خَنِبَ ـ خَنَبًا: ہلاک ہونا۔ اَخْنَبَ: ہلاک ہونا۔ اَخْنَبَهُ: کو ہلاک کرنا۔ اِخْتَنَبَ: ہلاک ہونا۔ الخَنَابَة: برائی۔

۵۔ الخَنَاب لمبا۔ الخَنَابَة: بڑا نشان۔

خنث: ۱۔ خَنِثَ ـ خَنَثًا الرجلُ: زنانہ صفت ہونا، ہیجڑا ہونا، صفت خَنِث۔ خَنَّثَهُ: کو زنانہ صفت بنانا، ہیجڑا بنانا۔ نرم کرنا۔ اِنْخَنَثَ: مڑنا، ٹوٹ جانا دوہرا ہونا، لچکنا۔ تَخَنَّثَ و اِنْخَنَثَ: زنانہ صفت ہونا، ہیجڑا ہونا۔ الخُنْث: اَخْنَثَ کا اسم: لچک، نرمی۔ خَنَاثِ: (کسر پر مبنی) مونث کا وصف ہے اور صرف ندا میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ یا خَنَاثِ: اے لچکنے والی۔ الخُنْثَى جمع خَنَاثَى و خِنَاث: ہیجڑا۔ جو مردوں اور عورتوں کے اعضا اکٹھے رکھتا ہو۔ المُخَنَّث: ڈھیلے لچکدار اعضاء والا۔ المُخَنَّثَات جمع مَخَانِيث: بہت لچکدار و نرم۔ کہا جاتا ہے: رجل مِخْنَاث و امرأة مِخْنَاث: بہت لچکدار و نرم مرد و عورت۔

۲۔ خَنَثَ ـِ خَنْثًا: کی ہنسی اڑانا، ٹھٹھا کرنا۔

۳۔ خَنَثَ ـِ خَنْثًا السقاءَ: مشک کے منہ کو پھاڑ کر باہر کی جانب موڑنا۔ خَنَّثَهُ: کو موڑنا۔ خِنَاث و اَخْنَاث (واحد خِنْث) الثوب: کپڑے کی تہیں۔ کہا جاتا ہے اِطْوِ الثوبَ علی خِنَاثِه: کپڑے کو اس کی تہوں پر لپیٹو۔

○ خَنِثَ ـَ خَنَثًا: نرم ہونا، زن صفت ہونا، زنانہ ہونا، نامرد ہونا۔ تَخَنَّثَ: زنانہ اطوار ظاہر کرنا، زن صفت، زنانہ یا نامرد ہونا یا ہو جانا۔ خَنِث: نرم، زن صفت، زنانہ، نامرد۔ خُنْثَى جمع خِنَاث و خَنَاثَى: ہیجڑا، مخنث۔ خُنُوثَة: نامردی، زنانہ پن۔ تَخَنُّث: نامردی، زنانہ پن۔ مُخَنَّث: دو جنسی نر مادہ ملا ہوا۔ نامرد، زن صفت، زنانہ، ناتواں، کمزور۔

خنج: الخَنْجَر وا لخِنْجَر جمع خَنَاجِر: خنجر۔

○ خَنْجَر جمع خَنَاجِر: خنجر۔

○ خَنْخَنَ: ناک سے بولنا، تن تن کی آواز نکالنا۔

خند: ۱۔ الخُنْدُب: بدخلق۔

۲۔ الخَنْدَرِيس: پرانی شراب (یونانی لفظ)۔

۳۔ الخُنْذُع: خسیس۔

۴۔ خَنْدَقَ خَنْدَقَةً: خندق کھودنا۔ الخَنْدَق جمع خَنَادِق: شہر پناہ کے اردگرد کی کھائی۔ خندق۔ (فارسی لفظ)

○ خَنْدَقَ (خَنْدَقًا): خندق کھودنا، مورچے سنبھالنا، لڑائی کے لئے تیار ہونا۔ خَنْدَق جمع خَنَادِق: خندق، کھائی۔

خنذ: ۱۔ تَخَنْذَذَ: دلیر بے شرم ہونا۔ الخِنْذِيذ جمع خَنَاذِيذ: لمبا، سخت، پہاڑ کی اونچی چوٹی، اچھا شاعر، بہادر، شجاع، سخی، بگولہ۔

۲۔ الخُنْذُع: خسیس۔

خنز: ۱۔ خَنِزَ ـ خَنَزًا و خُنُوزًا اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت: خَنِز و خَنَز۔ الخَنْزُوان (ح): بندر، نرسور۔ الخُنْزُوان و الخُنْزُوانة: تکبر۔

۲۔ الخِنْزِير جمع خَنَازِير (ح): سؤر۔ البری: جنگلی سؤر۔ خنزیر البحر (ح): ڈلفین سے چھوٹی ایک قسم کی مچھلی، خِنْزِيرُ الهند: خرگوش سے مشابہ اور اس سے قدرے چھوٹا دانہ دار جلد کا جانور۔ خِنْزِيرَةُ البئر (می): کنویں سے پانی نکالنے کی چرخی۔ الخَنَازِير (ع ا): گلے کی گلٹیاں، کنٹھ مالا۔ الخَنْزَرَة: موٹائی، پتھر توڑنے کا ہتھوڑا۔ الخَنَازِيرِيَّة (ن): ایک قسم کی تر گھاس جو کرہ ارض کے نصف شمالی حصہ میں عام ہے زمانہ قدیم میں اسے خارش اور دیگر جلدی امراض کے علاج میں استعمال کیا جاتا تھا۔

○ خنزوانية: بڑا بننے کا خبط، بڑی چیزوں کا خبط۔

○ خَنْزَب: شیطان۔

○ خِنْزِير جمع خَنَازِير: سور، خنزیر، خصی سؤر۔ خِنْزِير بَرِّي: جنگلی سور، بنڈیلا۔ خَنَازِير: کنٹھ مالا، گھینگا، خنازیر: تپ دق۔ خَنَازِيرِي: خنازیری، تپ دق کا۔

خنس: ۱۔ خَنَسَ ـُ خَنْسًا و خُنُوسًا و خِنَاسًا عنه: سے پیچھے ہٹنا، ایک طرف ہونا، سکڑنا۔ کہتے ہیں: خَنَسَ الطريقُ عنّا: ہم نے راستہ کو طے کرکے اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ خَنَسَهُ: کو پیچھے کرنا۔ ــ اِبهامَهُ: انگوٹھے کو سمیٹنا۔ کہا جاتا ہے: اَشار بأربع و خَنَسَ اِبهامَهُ: اسی نے انگوٹھے کو سمیٹ کر چار انگلیوں سے اشارہ کیا۔ خَنِسَ ـَ خَنَسًا: چپٹی اور سرے سے اٹھی ہوئی ناک والا ہونا صفت: اَخْنَس مونث خَنْسَاء جمع خُنْس: اسم۔ الخَنَس۔ اَخْنَسَهُ: کو پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے اَخْنَسْتُ عنه بعض حَقِّهِ: میں نے اس کا کچھ حق روک لیا۔ ــ او عار الطريق: کٹھن راستوں کو عبور کر جانا۔ اِنْخَنَسَ عنه: سے پیچھے ہٹنا، سکڑنا، پیچھے رہ جانا۔ الخُنَّس (ح): ہرنیاں، نیل گائیں۔ الاَخْنَس و الخَنُّوس (ح) شیر۔ الخَنَّاس: شیطان۔ الخَنِيس: فریبی، حیلہ باز۔ الخَنْسَاء (ح): نیل گائے۔

۲۔ خَنَسَ ـُ خَنْسًا و خُنُوسًا و خِنَاسًا بين اصحابه: اپنے ساتھیوں کے درمیان چھپنا۔ ــ خَنَسَ الشيءَ عنه: چیز کو کسی سے چھپانا۔ ــ فلانًا وبه: کو غائب کرنا، چھپانا صفت: خَانِس جمع خُنَّس۔ اَخْنَسَهُ عنه: کو سے روکنا۔ تَخَنَّسَ به: کو چھپانا، غائب کرنا۔ الخُنَّس: ہرنیوں کے رہنے کی جگہ (ح) ہرنیاں۔ الخُنَّس (فلک): سب ستارے یا سیارے یا بعض سیارے۔ بعض کے نزدیک یہ زُحَل و المُشْتَرِي و المرّيخ و الزُّهَرَة و عُطَارِد ہیں۔ کیونکہ یہ دھوپ میں چھپ جاتے ہیں۔

۳۔ خَنَسَ ـُ خَنْسًا القولَ: بری بات کہنا۔

۴۔ الخَنْسَر و الخَنْسَرِيّ جمع خَنَاسِرَة: نقصان میں پڑنے والا۔ الخِنْسِر: لئیم۔ الخَنَاسِير: مصائب۔

○ الخَنَّاس: شیطان کا لقب۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر پیچھے ہٹ جانے والا۔ اَخْنَس مونث خَنْسَاء جمع خُنْس: چپٹی ناک والا۔

خنش: الخِنْشَار (ن): ایک پودہ جس کو فنس راج کہتے ہیں۔

خنص: ۱۔ الخِنَّوْص مونث خِنَّوْصَة جمع خَنَانِيص: (ح): سور کا بچہ۔

۲۔ الخِنْصِر و الخِنْصَر جمع خَنَاصِر: چھنگلیا۔ کہا جاتا ہے۔ هذا امر تُعْقَدُ عليه الخَنَاصِر: یہ قابل اعتبار معاملہ ہے۔

○ عقد الخِنْصَر (الخَنَاصِر) على: کسی چیز کو تمام دوسری چیزوں پر فوقیت دینا، کسی چیز کو اس کی فضیلت کی بنا پر سب سے زیادہ اہمیت دینا، کو سب پر ترجیح دینا۔

خنط: الخَنْطَل (ح): بلی، مصیبت، قطار، ٹڈی دل۔

خنع: ۱۔ خَنَعَ ـَ خُنُوعًا له و اليه: سے عاجزی و فروتنی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا۔ –الی اللّٰہِ: بغیر عمل کے اللہ سے تضرع وزاری کرنا۔ –الی الامر السّیء: برائی کی طرف مائل ہونا۔ اَخْنَعَتْہُ الحاجةُ له و الیه: حاجت وضرورت کا کسی کو کسی کے آگے ذلیل وپست کردینا۔ الخَنَع: ذلت۔ الخانِع و الخُنُوع جمع خَنَعَة و خُنُع: بدکار، شک پیدا کرنے والا۔ الخُنْعَة: تہمت، عار۔

۲۔ خَنَعَ َ خُنُوعًا بفلانٍ: کے ساتھ بیوفائی کرنا۔

۳۔ خَنَعَہٗ: کو کلہاڑی سے کاٹنا۔

○ خَنَعَ َ خُنُوعًا اِلی/ل: کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کے آگے ہتھیار ڈال دینا، کی اطاعت قبول کرنا، کے آگے جھک جانا، کے سامنے عاجزی کرنا، لجاجت کرنا۔ خَنُوع: فرمانبردار، اطاعت شعار، کمینہ، ذلیل، فرومایہ، منکسر المزاج، مسکین، عاجزانہ طبیعت والا۔ عاجز، خاکسار، بیوفا، غدار، دغاباز، دھوکے باز، نمک حرام۔ خُنُوع: فروتنی، عاجزی، انکسار، انکساری، بے زبانی، نرم دلی، غلامی، چاکری، فرمانبرداری۔

خنف: ا۔ خَنَفَ ِ خِنَافًا البعیرُ: اونٹ کا دوڑتے ہوئے اپنا سر اپنے سوار کی طرف جھکانا۔ صفت: خَنُوف (مذکر و مؤنث) جمع خُنُف۔ –خُنُوفًا: غضبناک ہونا۔ –الرجلُ بانفِهِ: تکبر کرنا صفت: خانِف۔ خَنِفَ َ خَنَفًا صدرُہٗ او ظهرُہٗ: کے سینہ یا پیٹھ کی ایک طرف کا دوسری جانب سے مخالف ہونا صفت: اَخْنَف جمع خُنْف۔ الخُنُف: نشانات۔

۲۔ خَنْفَسَ عن القوم: قوم سے بددل ہونا، قوم سے کنارہ کش رہنا۔ الخُنْفَس و الخِنْفِس و الخُنْفُس و الخُنْفَساء و الخُنْفَساءَة جمع خَنَافِس (ح): گبریلا۔ الخُنافِس (ح): شیر۔ خُنْفَساء البطاطس (ح): آلوؤں کی نرم زمین کو نقصان پہنچانے والے حشرات الارض۔

○ خَنْفَرَ: سوں سوں کرنا، سُر سُر کرنا، زکام کے باعث ناک میں بولنا، نتھنوں سے آواز نکالنا۔

خنق: ا۔ خَنَقَ ُ خَنْقًا و خَنِقًا و خَنَّقَ تخنیقاہ: کا گلا گھونٹنا۔ کہا جاتا ہے: خَنَقَتْهُ العَبرةُ اسے رونے میں پھندا لگ گیا اِنْخَنَقَ: اپنا گلا گھونٹنا۔ اِخْتَنَقَ: گلا گھٹنا۔ الخَنِق و الخَنِیق: گلا گھونٹا ہوا۔ الخانِق (فا): تنگ راستہ۔ الخُناق (طب): ایک بیماری کا نام جس میں سانس لینا دشوار ہوجاتا ہے۔ الخِناق: رسی وغیرہ جس سے گلا گھونٹا جائے۔ گردن (کہا جاتا ہے: اَخَذَہٗ بخناقه: اس نے اس کو گردن سے پکڑ لیا)۔ گلی، کوچہ۔ الخَنّاق: وہ جس کی عادت گلا گھونٹنے کی ہو۔ المُخَنَّق (مفع): گلا گھونٹنے میں رسی کی جگہ۔ گردن۔ کہا جاتا ہے: غلامٌ مُخَنَّقُ الخصر: پتلی کمر والا لڑکا۔ المِخْنَقَة جمع مَخانِق و مَخانیق: گلا گھونٹنے کی چیز۔ ہار۔ گلوبند۔ المُخْتَنَق: تنگ جگہ، آبنائے۔ درہ۔ الخُناقِيَّة (طب): پرندوں اور گھوڑوں کے حلق میں پیدا ہونے والی بیماری۔

۲۔ خَنَقَ َ خَنْقًا العَلَمَ: اظہارِ غم میں جھنڈے کو سرنگوں کرنا۔

۳۔ خَنَّقَ تخنیقًا الاناءَ: برتن بھرنا۔ –السرابُ الجبلَ: سراب کا پہاڑ کو تقریبًا ڈھانپ لینا۔ –زیدٌ الأَربعین: زید کا چالیس برس کے قریب پہنچنا۔

۴۔ خانِقُ الذئب و خانقُ النمر و خانقُ الکلب و خانقُ الکرسنة (ن): مختلف نباتات کے نام۔

○ خَنَقَ ُ خَنْقًاہ: کا گلا دبانا، گلا گھونٹنا، ٹیٹوا دبانا کا گلا گھونٹ کر ماردینا، کا دم روکنا، سانس روکنا، کو پھانسی دینا، –ہ: انجن یا گاڑی کے ایندھن یا طاقت کی آمد کو کنٹرول کرنا کہ اس کی رفتار کم کی جائے۔ کو آہستہ کرنا، کاٹنا، روکنا، دبانا۔ خانَقَ ہ: سے جھگڑنا، لڑنا۔ تَخانَقَ مع: کے ساتھ جھگڑنا، بحث کرنا، لڑنا۔ اِنْخَنَقَ: کا گلا گھٹنا، کی رفتار کم ہونا، آہستہ ہونا، رکنا۔ اِخْتَنَقَ: گلا گھٹنا، رفتار کم ہونا، دبنا، ختم ہونا رکنا، (گلے کا) داب میں آیا ہوا ہونا، کھچا یا سکڑا ہوا ہونا۔ گلا گھٹ کر مرنا۔ خَنْق: گلا گھونٹنا، گلا دبانا، حبس یا اختناق، دبانا، امتناع، خاتمہ۔ خَنْقُ الانوار: ہلکی روشنی۔ خَنْقَةُ الید: کلائی۔ خُناق: گلا گھونٹنا، حبس، دل کی بیماری، ضعف قلب۔ خُناق و خانوق: خناق، (جمع خَوانِق و خَوانیق) خَنّاق: گلا دبانے والا، گلا گھونٹنے والا، گلا گھونٹ کر مار ڈالنے والا۔ مَخْنَق: گردن، گلا۔ اَخَذَہٗ بمخنقه: کو گلے سے پکڑنا، کو پچھاڑنا، زیر کرنا، پر تسلط کرنا۔ خِناق: گلا گھونٹنے کی ڈوری، گردن، گلا۔ ضَیَّقَ الخِناق علی: کے گلے کے گرد گرفت مضبوط کرنا کی گردن پر پاؤں رکھنا، کو زیر کرنا، دبانا، کو سختی سے گھیر لینا۔ اَخَذَ بخناقه: کو گلے سے پکڑنا۔ خِناق و خِناقة: جھگڑا، لڑائی، قطار، صف۔ اِختناق: گلا گھٹنا، سانس کا رکنا، کھچاؤ، انقباض، سکتہ، چکر، غشی خانِق: گلا دبانے والا، گلا گھونٹنے والا، گلا دبا کر مار ڈالنے والا سانس روکنے والا، زبان بندی کرنے والا، بھاپ نکلنے کی ٹونٹی سے ... پانی کا کم کرنے یا زیادہ کرنے کا والو۔ (جمع خوانق): گلا گھونٹنے کی ڈوری تاریکی تعامل ساز۔ تنگ گھاٹی، گہری گھاٹی، کھڈ، گہری کھڈ۔ غاز خانِق: گلا گھونٹنے والی گیس۔ مَخْنُوق: گلا گھونٹا ہوا۔ گلا دبایا ہوا، پھانسی دیا ہوا، دبی ہوئی یا دبی دبی (آواز ہنسی) سکڑا ہوا، منقبض، کھچاؤ میں آیا ہوا، دبا کر خون یا پاخانہ روکا ہوا۔ مُخْتَنِق ب: سے لبالب یا کھچا کھچ بھرا ہوا، ہجوم سے رکا ہوا یا بند ہوا ہوا، سے پرہجوم۔

خنا: ا۔ خَنَا ُ خَنْوًا و خَنِیَ َ خَنًی و اَخْنَی علیه فی الکلام: کے ساتھ فحش کلامی سے پیش آنا۔ الخَنَی: بدزبانی فحش گوئی۔

۲۔ اَخْنَی علیه الدهرُ: پر زمانہ کا دراز ہوجانا، کو ہلاک کرنا، پر ظلم کرنا، سے بیوفائی کرنا، کہا جاتا ہے، اَخْنَی به: اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ بدعہدی کی۔ خَنَی (واحد خَناة) الدهرِ: زمانہ کے مصائب۔

۳۔ اَخْنَی الجرادُ: ٹڈی کا بہت انڈے دینا۔ –المرعی: چراگاہ کا بہت گھاس والی ہونا۔

○ خَنَا ُ و خَنِیَ َ خَنًی: فحش زبان استعمال کرنا، ناشائستہ زبان استعمال کرنا۔ اَخْنَی علی (قسمت کا کسی شخص یا چیز کو) سخت دھچکا لگانا، المناک طور پر تکلیف میں ڈالنا، برباد کرنا، تباہ کرنا، کچل ڈالنا، کو مسلسل کمزور تر کرتا جانا۔ خَنًی: فحش زبان، ناشائستہ زبان ناشائستہ یا فحش چیز، رنڈی پن، طوائفیت، حرام کاری، زنا۔

خاب: خابَ ُ خَوْبًا: محتاج ہونا، غریب ہونا۔ الخَوْبَة: بھوک، وہ زمین جس پر چارہ نہ ہو یا جس پر بارش نہ برسی ہو۔

خات: ا۔ خاتَ ُ خَوْتًا و خَوَتانًا الرجلُ: عمر رسیدہ ہونا۔

۲۔ خاتَ ُ خَوْتًا و خَوتانًا الرجلُ: بدعہدی کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔

۳۔ خاتَ ُ خَوْتًا و خَوَتانًا البازی علی الصید: باز کا شکار پر جھپٹنا۔ –خَوّاتُ العُقابُ: جھپٹے وقت عقاب کا پروں سے سرسراہٹ کی آواز نکالنا۔ تَخَوَّتَ الشیءَ: کو اچک لینا۔ حدیثَ القوم: لوگوں کی بات سن کر یاد رکھنا۔ –الشاۃَ: بکری کو دھوکے سے چرا لینا۔ اِنْخاتَ البازی علی الصید: باز کا شکار پر جھپٹنا۔ اِخْتاتَ البازی علی الصید: باز کا شکار پر جھپٹنا۔ —— الشیءَ: کو اچک لینا۔ —— حدیثَ القوم: لوگوں کی بات سن کر یاد رکھنا۔ —— الشاۃَ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بکری کو دھوکے سے چرالینا۔ کہا جاتا ہے: ھم یختاتون اللیلَ: وہ رات کو راہزنی کرتے ہیں الخوّات: بہادر اور دلیر آدمی۔
۴ خاتَ ـُ خَوتًا و خُوُتانًا المالَ: مال کو کم کرنا۔ تخوّت و اختات المالَ: مال کو کم کرنا۔
۵ خوِتَ: پاگل ہونا یا ہو جانا (عام زبان میں)۔ الاخوت م خوتاء ج خوت: پاگل۔ اسم خوَات: پاگل پن
حوت حَوِتَ ـَ خَوَتًا البطنُ: پیٹ کا ڈھیلا ہونا، کھانے سے بھرا ہوا ہونا صفت: اخوت مونث خوتاء۔
○ خواجة جمع خواجات: جناب، میاں، (مسیحیوں اور مغربی ممالک اور امریکہ کے باشندوں کا لقب، جو عموماً اس شخص کا نام لئے یا نام لئے بغیر استعمال کیا جاتا ہے جسے مخاطب کیا گیا ہو۔ (جیسے ہمارے ہاں میاں صاحب، چودھری صاحب وغیرہ) خوان و خِوان جمع اخونة و اخاوین: میز خوان الزینة: سنگار میز۔
○ خوجة: استاد، سکول ماسٹر۔
خاخ: اخاخَ اخاخةً العشبُ: تازہ گھاس کا کم ہونا، پوشیدہ ہونا الخوخ (واحد خوخة) (ن): شفتالو، آڑو الخوخة: روزن، روشندان، بڑے دروازے کے کی کھڑکی الخوخاء و الخوخاة و الخوخاءة: احمق، بیوقوف۔
○ خوّخ: گلنا سڑنا، بگڑنا، خراب ہونا خوخ (اسم جنس واحد خوخة: آڑو، شفتالو، آلو بخارا، کشمش، میوہ خوخة جمع خوخ: سقفی روشندان، کھڑکی جیسا راستہ، بڑے پھاٹک میں لگی ہوئی کھڑکی، چور کھڑکی، پھرکی دروازہ، دو گلیوں کو ملانے والا کوچہ۔
خود: خوّدَ الرجلُ: تیز چلنا من الطعام شیئًا: کچھ کھا پانا۔ تخوّدَ الغصنُ: شاخ کا جھکنا الخوْد جمع خوْدات و خود: جوان عورت۔
خوذ: اخاوذَ مُخاوَذَةً الی الشیءِ: کے پاس ایک کے بعد دوسرے کا آنا۔ کہا جاتا ہے خاوذنا الی الماء: وہ پانی کی طرف جا رہے تھے اور ہم لوٹ رہے تھے۔
۲ خاوذَ عنه: سے کنارہ کش ہونا۔
۳ خاوذتْه الحمّی: بخار نے اس کو بے وقت آن لیا۔
ـہٗ: کی زیارت کے لئے بار بار آنا تخوّذَ: برابر ملتے رہنا۔ آپ کہتے ہیں تخوّذنا بالزیارة: اس نے ہم سے بار بار ملاقات کی تخاوذَ القومُ: آپس میں عہد و پیمان کرنا خواذُ الحمّی: بخار کا نا معلوم وقت پر آنا۔
۴ الخوذة جمع خوَذ: خود (جو لڑنے والا سر کو بچانے کے لئے پہنتا ہے) خوذ ان الناس: لوگوں کے خدمتگار۔
○ خُوذة جمع خوذات و خُوَذ: خود، لوہے کی ٹوپی۔
خار: اخار ـُ خُوارًا البقرُ: گائے کا ڈکارنا، آواز کرنا اخارهٗ: کو موڑنا، جھکانا، مائل کرنا۔ کہا جاتا ہے اخرنا الابل الی موضع کذا: ہم نے اونٹوں کو فلاں مقام کی طرف موڑ دیا تخاورت الثیرانُ: بیلوں کا ایک دوسرے پر آواز نکالنا۔ استخارهٗ: کی طرف سے مہربانی کا خواہشمند ہونا الخُوار (مص): گائے کی آواز (بکریوں، ہرنوں اور تیر کی آواز پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔) فرسٌ خوّارُ العِنانِ: جلد تابع ہونے والا تیز رفتار گھوڑا۔
۲ خارَ ـُ خُؤورًا و خورَ ـَ خَوَرًا: سست ہونا، کمزور ہونا، ٹوٹنا ـت قوّةُ المریض: بیمار کی طاقت گھٹ جانا خوّرَ: کمزور ہونا، ڈھیلا ہونا ـہ الرجلَ: کسی کی کمزوری کی طرف نسبت کرنا۔ ـت الارضُ: بارش کی کثرت سے زمین کی مٹی کا نرم ہونا الخوّار: کمزور، ڈھیلا، بزدل۔
۳ خارَ ـُ خوْرًا هٗ: کے چوتڑ پر مارنا۔ کہا جاتا ہے طعنةٌ فخارهٗ: اس نے اس کے چوتڑ پر مارا الخوران جمع خورانات و خواریْن: گوبر، لید بہنے کی جگہ۔
۴ استخارَ المنزلَ: منزل کو صاف کرنا۔
۵ الخَور: دو بلند مقامات کے درمیان پست ونشیبی قطعہ زمین الخوّار من الزناد: چقماق۔
۶ الخوريّ جمع خوارنة: کاہن (یونانی لفظ) الخوريّ اسقفی: نائب اسقف۔ مشرقی کلیسا میں ایک رتبہ الخورُس: گرجا میں مذہبی خادموں کے قیام کی جگہ (یونانی لفظ)۔
○ خارَ ـُ خُوارًا: (مویشیوں کا) آواز نکالنا، ڈکرانا خوِرَ ـَ خوَرًا و خارَ ـُ: طاقت میں یا عزور میں زوال پذیر ہونا، کمزور ہونا، کم ہمت، کم حوصلہ یا مردہ دل ہونا، سست ہونا، کاہل ہونا، مضمحل ہونا کملانا، مرجھانا، ڈھیلا ہونا، سست پڑ جانا، گھٹنا، سکڑنا، سمٹنا، کم ہونا، روبہ تنزل ہونا طاقت کا ختم ہو جانا خور جمع اخوار و خِیران: چھوٹی کھاڑی، کھاڑی، خلیج۔
خَور: کمزوری، تھکن، تکان، ضعف، ناتوانی، ڈھیلا پن، سستی، آلکسی خُوار: ڈکارنا، مویشیوں کی آواز۔
خوّار: کمزور، تھکا ماندہ، ناتواں سست، کاہل، مضمحل، بے طاقت خُوری جمع خوارنة: پادری پادری کا مددگار خُورُس: سماع خانہ (گرجا کا) خانہ۔
خاز: خازَ ـُ خوزًا هٗ: سے دشمنی کرنا، عداوت رکھنا۔
○ خوزَقَ هٗ: کے جسم میں میخ ٹھونک کر اسے ہلاک کرنا، کو زچ کر دینا، کو کونے میں کر دینا، مشکل میں ڈالنا۔
خازوق: کھمبا، بری چال، دھوکا۔
خاس: خاسَ ـُ خوسًا ت الجیفةُ: لاش کا سڑنا۔ ـت البضاعةُ: سامان کا فروخت نہ ہونا ـ العهدَ و بالعهد: بدعہدی کرنا ـ بالوعد: وعدہ خلافی کرنا ـ بفلان: سے بے وفائی کرنا خوّسَ الشیءَ: کو کم کرنا۔
○ ورق خوشق: لپیٹنے کا کاغذ، سیاہی چوس، جاذب۔
خاش: اخاش ـُ خوشًا ہٗ بالرمح: کو نیزے سے مارنا الرجلُ: بھیڑ میں گھس جانا۔
۲ خاشَ ـُ خوشًا الشیءَ: چیز کو لینا۔
۳ خوّشَ الشیءَ: چیز کو کم کرنا تخوّشَ الشیءَ: چیز کو کم کرنا ـ الرجلُ: فربہ ہونے کے بعد لاغر ہونا۔
الخوش: پہلو التخویش: کم کرنا، کمی۔
المتخوّش و المتخاوش: چھریرا اور دبلے بدن والا۔
۴ الخوشان واحد خوشانة (ن): ایک قسم کی ترش گھاس۔
خوص: اخوِصَ ـَ خوَصًا: کی آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا۔ صفت: اخوص مونث خوصاء جمع خُوص۔ خاوصَ و تخاوصَ: نیم وا آنکھوں سے دیکھنا ـت النجومُ: ستاروں کا مائل بغروب ہونا۔
الخوصاء: گرم ہوا۔ کہا جاتا ہے خرجوا فی الظهیرة الخوصاء: وہ دوپہر کی سخت گرمی میں نکلے۔
۲ خوِصَ ـَ خوَصًا ت الشاةُ: بکری کا سفید جسم اور ایک آنکھ سفید اور ایک سیاہ والی ہونا خوّصَ هٗ الشیبُ: میں بڑھاپے کا آغاز ہونا۔
۳ خوّصَ: پہلے شریف لوگوں پھر رذیل لوگوں کا اکرام کرنا ـ العطاءَ: بخشش کم کرنا، کہا جاتا ہے: خوّص ما اعطاك: جو کچھ وہ تم کو دے لے لو اگرچہ کم ہو تخوّصَ الشیءَ: چیز تھوڑی ہونے پر بھی لے لینا ـ العطیّةَ: عطیہ تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔
۴ خوّصَ التاجَ: تاج کو سونے کے پتروں سے سجانا۔
۵ خاوصَ مخاوصةً البیعَ: سے بیچنے میں مقابلہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا۔
۲اَخْوَصَ النخلُ: کھجور کے درخت کا پتے نکالنا۔
الخُوص (واحد خُوْصَة): کھجور کے درخت کے
پتےاَلْخَوَّاص: کھجور کے پتے بیچنے والا۔
الخِیاصَة: کھجور کے پتے بیچنا۔
○ خُوص (اسم جنس (واحد خُوْصَة): کھجور
کے پتےخُوْصَة: کھجور کے پتوں کی مینڈھی۔
خِوَاصة: کھجور کے درخت کے پتوں کی مینڈھی
بنانے کافن۔

خاض: اخَاضَ ـُ خَوْضًا و خِیاضًا الماءَ: پانی میں
گھسنا،داخل ہونا= الشراب: شراب ملانا=
بالفرس: گھوڑے کو پانی پرلانا= الجوادُ فی
المیدان: گھوڑے کا میدان میں کلیلیں کرنا= فی
الحدیث. گفتگو میں مشغول ہونا= الغمراتِ:
سختیوں میں گھس پڑنا کہا جاتا ہےانه یخوض
المنایا: وہ اپنے آپ کو خطروں میں جھونکتا ہے هو
یخوضُ اللیل: وہ رات کو ہولنا کیوں سے نڈر ہو کر
اندھادھند بڑھتا ہےخَوَّضَ الماءَ: پانی میں
گھسناخَاوَضَ مُخاوَضَةً الفرسَ: گھوڑے کو پانی
میں داخل کرنااَخَاضَ اِخَاضَةً الفرسَ: گھوڑے کو
پانی میں داخل کرنااَخَاضُوا الماءَ: اپنے جانوروں
کو لے کر پانی میں گھستاتَخَوَّضَ: پانی میں بتکلف
گھستاتَخَاوَضَ القومُ فی الحدیث: لوگوں کا
باہم گفتگو میں مشغول ہونااِخْتَاضَ الماءَ: پانی میں
داخل ہونا،گھستاالخَوْضَة: خاض کا اسم مرۃ۔
الخَوَّاض: بہت گھسنے والاالمَخَاضَة جمع
مَخَاوِض و مَخَاض و مَخَاضات: پانی میں گھسنے
کی جگہ۔پایاب مقام۔
۲خَاضَ ـُ خَوْضًا و خِیاضًا بالسیف: تلوار کو
مضروب (زخم) میں حرکت دینا،ہلانا۔
۳المَخَوْضَة: موتی۔
○ خَاضَ ـُ خَوْضًا و خیاضًا (ہ): (پانی) میں
پایاب جانا= ہ: میں یکا یک کود پڑنا،گھس جانا،ڈبکی
لگانا،غوطہ مارنا،غائب ہو جانا،میں اندھادھند کود پڑنا،
تیزی سے جانا= ہ: سے جرات کے ساتھ نبٹنا،کا
بہادری سے آغاز کرنا= ہ/فی: کے آر پار ہونا،میں
منہمک یا مستغرق ہونا= فی: (کسی موضوع) کی
تفصیلات میں جانا،کی طرف توجہ کرنا کو جاری رکھنا،
خَاضَ المعرکة: جنگ میں تیزی سے جاناخَاض
غِمارَ الحربِ: جنگ میں داخل ہو جاناخَوْض:
(میں) یکا یک کود پڑنا،گھس جانا،تیزی سے جانا (جنگ،
مذاکرات) میں داخلہ،داخل ہونا،فی: (موضوع کا)
کا جائزہ،پر بحث مَخَاضة جمع مَخَاضات و
مَخَاوِض: پایاب مقام۔

خوط: تَخَوَّطَ ہُ: کے پاس وقتاً فوقتاً آنااَلْخُوط جمع
خیطان: نرم ٹہنی یا ہر شاخ۔

خاف: اخَافَ ـَ خَوْفًا و خَیفًا و مَخَافَةً و خِیفَةً:
ڈرنا،محتاط ہونا،خوف زدہ ہونا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے:
خَافَہٗ و خَافَ مِنْہُ و خَافَ عَلَیْہِ: وہ اس سے ڈرا،
خوف زدہ ہوا،کے بارے میں پریشان ہوا) صفت:
خائِف جمع خُوف و خُیَّف و خِیَّف و
خائفون۔خَوَّفَ ہٗ: کو ڈرانا= الطریقَ: راستہ
کو خوف ناک بنانا خَاوَفَ ہٗ: سے ڈرنے میں
مقابلہ کرنا،پر خوف میں غالب ہونا۔کہا جاتا ہے:
خَاوَفْتُہٗ فَخُفْتُہٗ اَخُوْفُہٗ: ڈرنے میں جب میرا اس
سے مقابلہ ہوا تو میں اس پر غالب رہا یعنی میں اس سے
زیادہ ڈرنے والا ثابت ہوااَخَافَ اِخَافَةً ہٗ: کو
ڈرانا= الطریقُ: راستہ کا گھبراہٹ میں ڈالنا۔
تَخَوَّف: ڈرنا،خوف زدہ ہونا محتاط ہونا،خوفناک
ہونا= علیه شیئاً: پر سے خوف کھانا۔الخَاف: بہت
ڈرنے والاالمَخَافَة: چمڑے کا لباس جو شہد نکالنے
والا پہنتا ہے،وہ شئے جس کے ذریعہ پھلوں کو چنا جاتا
ہےالمَخْوَاف: شوروغل= الخِیفَة جمع خِیَف:
ڈرنے والے کی حالتالمَخُوف: خوفناک۔کہا جاتا
ہےطریقٌ مَخُوفٌ: خوفناک راستہ،وہ راستہ جس
میں طرح طرح کے خوف ہوں۔
۲تَخَوَّفَ الشیءَ: کو آہستہ آہستہ کم کرناالحقَّ: حق مار
لینا۔
○ خافَ ـَ خَوْفًا و مَخَافَةً و خِیفَةً: ڈرنا،خائف
ہونا= ہ/ہ/ من: سے خائف ہونا،ڈرنا،دہشت
زدہ ہونا دہشت کھانا= علی: کے بارے میں
پریشان ہونا= اَن: پریشان ہونا کہ... خَوَّفَ و
اَخَافَ ہ: کو ڈرانا،خائف کرنا چوکس کرنا،ہوشیار
کرنا،گھبرا دینا،دہشت زدہ کرنا خوف سے بھر دینا۔
تَخَوَّفَ: بمعنی خاف۔خَوْفٌ من: کا ڈر،کی
دہشت خَوْفًا من: کے ڈر سے،پرتشویش کے
باعث خِیفَةٌ من: کا خوف،کی دہشت خَوَّاف،
خَوِیف: بزدل،بے ہمت،ڈرا ہوا،سہا ہوا،ڈرپوک،
بودااَخْوَف: زیادہ بزدل،زیادہ ڈرپوک،زیادہ بودا
زیادہ دہشت ناکمَخَافَة: ڈر،خوفمَخَافَةَ اَن:
اس خوف سے کہ،خائف کہ۔مَخَاوِف (مَخَافَة
کی جمع) طرح طرح کے خوف،اندیشے،پریشانیاں،
دہشتیں،خطرے،سخت خطرےتَخْوِیف و اِفَاخَة:
دھمکی،ڈر،غنڈہ گردی،رعب ڈالنا،ڈرانا،خائف
کرناتَخَوُّف: خوف،ڈرخَائِف جمع خُوَّف:
بزدل،ڈرا ہوا،سہا ہوا،ڈرپوک،بودا،دہشت زدہ،
ـمن: سے چوکس ہوشیار،خائف= علی: کے
بارے میں پریشان تشویش زدہ،کے لئے تشویش مند،
پریشانمُخُوف: ڈرا ہوا،خطرناک،سخت خطرے کا
مُخِیف: خوف پیدا کرنے والا،دہشت ناک،خوفناک،
ڈراؤنا،ہولناک۔

خوق: اخَوِقَ ـَ خَوَقًا و انْخَاقَ و تَخَوَّقَ: وسیع
ہونا،کشادہ ہونا صفت: اَخْوَق مؤنث خَوقاءُ جمع
خُوق۔خَوَّقَ ہٗ: کو وسیع کرنا،کشادہ کرنااَخَاقَ
اِخَاقَةً: زمین میں پھرناتَخَوَّقَ عنه: سے دور
ہونااَلْخَوَق: وسعت،کشادگی مکانٌ مُنْخَاق:
کشادہ جگہ۔
۲المَخْوَق: کھجلی،خارشالاَخْوَق: خارش زدہ،کانا،
یک چشم۔

خال: اخَالَ ـُ خَوْلاً و خِیالاً المواشیَ: مویشیوں
کی نگہبانی کرنا،نگرانی کرنافلانٌ علی اَھله: اپنے
اہل وعیال کا انتظام و انصرام کرنا،ان کے لئے کافی
ہونا= خَوْلًا: تنہائی کے بعد غلاموں والا ہوناخَوَّلَ
ہُ الشیءَ: کو چیز عطا کرنا،بخشا،کو چیز کا مالک بنانا۔
تَخَوَّلَ فُلَانًا: کی نگہبانی کرنا،دیکھ بھال کرنا۔
اِسْتَخْوَلَ ھم: کو اپنے لونڈی غلام بنانااَلْخَوَل
جمع خَوْلِیّ: غلام،لونڈیاں اور دیگر حاشیہ بردار لفظ
واحد ہے اور سب کے لئے جمع کے معنی دیتا ہے۔کبھی
واحد کے لئے خائل کا لفظ آتا ہے۔تخویل (مالک بنانا)
سے ماخوذ ہے۔بعض کے نزدیک رعایہ سےاَلْخال:
چیز کا مالک۔آپ کہتے ہیںاناخالُ ھذا الفرس:
میں اس گھوڑے کا مالک ہوںالخَائِل (فا) (کہا
جاتا ہےھو خائِلُ مالٍ: وہ مال کا منتظم و مدبر ہے۔
یہ بھی کہا جاتا ہےھو خالُ مالٍ (ہمزہ محذوف کے
ساتھ) وہ مال کا مالک ہے)خَوَّل کا واحداَلْخَوْلِیّ
جمع خَوَل: مال کا اچھا انتظام کرنے والا اور
نگہبان۔
۲اَخَالَ فیه خالاً من الخیر و اَخَالَهٗ: میں فراست
سے بھلائی کا پتہ لگاناتَخَوَّلَ فیه خالاً من
الخیرو تَخَیَّلَ تَخَوُّلًا و تَخَیُّلًا: میں بھلائی
معلوم کرنااَلْخال: (خیر) کا نشان۔
۳اَخْوَلَ و اُخْوِلَ: ماموؤں والا ہونا۔تَخَوَّلَ خالاً:
کو ماموں بنانااِسْتَخْوَلَ و اِسْتَخَالَ فیھم:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(ان) کو ماموں بنانا۔ یا (ان میں) سے ماموں بنانا۔
الخال جمع اَخْوَال و اَخْوِلَة و خُؤُول و خُوَّل و خُؤُولَة: ماموں۔ الخَالَة جمع خَالَات: خالہ آپ کہتے ہیں: هما ابنا خالة: وہ دونوں ایک دوسرے کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ الأَخْوَل: بہت سے ماموؤں والا۔ رجلٌ مُخْوِلٌ و مُخْوَل و مُخَال: شریف ماموؤں والا۔ الخُؤُولَة: ماموں ہونے کا رشتہ۔
۴۔ الخال: فوج کا جھنڈا۔ الخَوْلَة (ح) ہرنی۔
○ خَوَّلَ ہ ہ یا ل ہ: کو کوئی چیز دینا، عطا کرنا مرحمت کرنا کو (مراعات) دینا، کا (حق) ماننا یا تسلیم کرنا کا کچھ کرنے کا اختیار تسلیم کرنا۔ ۔ہ ہ یا ل ہ: کو کوئی (قانونی حق) دینا، کو (خوبی) عطا کرنا۔ خال جمع اَخْوَال و خُؤُول و خُؤُولَة: ماموں (جمع خِیلان): (چہرے پر) تل، پیدائشی نشان۔ داغ، حسین خط۔ خَالَة جمع خالات: خالہ۔ خَوَل: جائداد منقولہ۔ خانگی سامان، مویشیوں اور غلاموں پر مشتمل ملکیت، نوکر چاکر، رقاص، زنانہ شخص، خَوَلِیّ (کھیتوں یا باغوں کا) نگران، منتظم، مالی، باغبان۔ خُؤُولة: ماموں کا رشتہ۔ مُخَوَّل ب: کا مختار، مجاز۔
خام: خَامَ ـُ خَوَمَانًا تِ الارضُ: زمین کا صحت کے ناموافق ہونا۔ اَخَامَ اِخَامَةً الفرسُ: گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ الخَام جمع اَخْوام: سوتی کپڑا۔
○ خام (دیکھو خام) ابجدی ترتیب سے)
خان ۱۔ خَانَ ـُ خَوْنًا و خِیَانَةً و مخانَةً و خَانَةً فی كذا: میں خیانت کرنا۔ ۔العهدَ: عہد توڑنا کہا جاتا ہے: خَانَهُ العهدَ او الامانةَ: سے عہد میں پورا نہ اترنا یا کی امانت میں خیانت کرنا۔ صفت: خَائِن جمع خُوَّان و خَانَة و خَوَنَة۔ ۔هُ سیفُهُ: کی تلوار کا اچٹ جانا۔ ۔هُ الدهرُ: زمانہ کا کسی کی حالت کو فراخی سے تنگی میں تبدیل کر دینا۔ ۔الدلوَ الرشاءُ: ڈول کی رسی کا ٹوٹ جانا۔ خَوَّنَ هُ: کی طرف خیانت کی نسبت کرنا۔ تَخَوَّنَهُ الدهرُ: زمانہ کا کسی کی حالت کو فراخی سے تنگی میں تبدیل کر دینا۔ اِخْتَانَهُ: کی خیانت کرنا۔ اِسْتَخَانَ هُ: کی خیانت کا ارادہ کرنا۔ الخَائِنَة: خائن کا مؤنث۔ بہت خیانت کرنے والا۔ (الخائن کے ساتھ ت کا استعمال مبالغہ کا معنی دیتا ہے۔ جیسے راوية میں، جس کا معنی ہے بہت روایت کرنے والا۔ الخَؤُون و الخَوَّان: بہت خیانت کرنے والا۔ الخَوَّانَة: بڑا خائن (تاء مبالغہ کی ہے بہت خیانت کرنے والا) سرین۔

۲۔ خَانَ ـُ خَوْنًا: جسمانی طور پر اور نظر میں کمزور ہونا۔ ۔تْهُ رِجْلَاهُ: چل نہ سکنا۔
۳۔ خَوَّنَ هُ و خَوَّنَ منه و تَخَوَّنَ: کو آہستہ آہستہ کم کرنا۔ اِخْتَانَ المالَ: مال چرا لینا۔
۴۔ خَوَّنَ و تَخَوَّنَ هُ: کی نگہبانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اسی سے ہے: كانت الحُمَّى تَتَخَوَّنُهُ: اس کو بخار وقت پر آتا تھا۔
۵۔ الخان: ترک بادشاہوں کا لقب۔ ۔جمع خانات: دکان، سرائے۔ (مو) آواز کا زیر و بم (فارسی لفظ)۔ الخُوَان و الخِوَان جمع أَخْوِنَة و خُوُن: دستر خوان۔ عام لوگ اسے سُفْرة کہتے ہیں۔
○ خَانَ ـُ خَوْنًا و خِیَانَةً هُ: سے غداری کرنا، بے وفائی کرنا، سے بیوفا ہونا، سے دغا بازی کرنا، کو دھوکا دینا، دغا دینا، فریب دینا، جل دینا، ٹھگ لینا، کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کو مرعوب کرنا۔ ۔زَوْجَتَهُ: اپنی بیوی کو دھوکا دینا۔ ہ: (یادداشت کا) کسی کو دھوکا دینا، غلط خیال دلانا، جل دے جانا۔ ۔ہ: سے الگ ہو جانا، کو چھوڑ دینا، کا وقت پر ساتھ نہ دینا، کا مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دینا، سے دغا کرنا۔ ۔ہ: کی آواز وغیرہ نہ نکلنا۔ ۔ہ: وعدہ ایفا نہ کرنا۔ ۔عهدا: عہد توڑنا۔ خَوَّنَ ہ: کو غدار، بے وفا، بے ایمان، ناقابل اعتبار یا، غا باز سمجھنا یا کہنا، پر بھروسہ نہ کرنا، اعتبار نہ کرنا، شک و شبہ کرنا، کے متعلق بدگمانی کرنا سے بدظن ہونا۔ تَخَوَّنَ ہ: کو بگاڑنا خراب کرنا گھٹانا، کمزور کرنا، نقصان پہنچانا، میں خلل ڈالنا، (حق) تلفی کرنا، (جذبات) کو ٹھیس پہنچانا، بے جا اثر ڈال کر موافق بنانا۔ اِخْتَانَ ہ: کو دھوکا دینا، ٹھگنا، سے دغا بازی کرنا، کو احمق بنانا، سے دورخی چال چلنا، کو پکڑوا دینا، کو دغا سے دشمن کے حوالے کرنا۔ اِسْتَخْوَنَ ہ: پر بھروسہ نہ کرنا، اعتبار نہ کرنا، کے متعلق بدگمانی کرنا، سے بدظن ہونا۔ خِیَانَة: بے ایمانی بدعہدی، عہد شکنی، وعدہ خلافی، دھوکا، مکر، فریب، کھوٹ، بغاوت، غداری، بے وفائی، سرکشی، دغا بازی، فریب دہی، دھوکا دہی، افشائے راز، دغا نمک حرامی، بے وقوف بنانا۔ نقض اعتبار۔ خیانةُ الامانة: اعتبار شکنی۔ خِیَانة عُظْمی: بغاوت، غداری۔ خیانةُ الوُعُود: وعدہ شکنی۔ خؤون: بے ایمان، غدار، بے وفا، نمک حرام، غدارانہ، دغا باز، ناقابل اعتبار، دھوکے باز، گمراہ کن، فریب دہ، دھوکے میں ڈالنے والا۔ خَوَّان: ناقابل اعتماد، غیر معتبر، بے وفا، غدار، نمک حرام، بے ایمان۔ دغا باز۔ خائن جمع خُوَّان و خَوَنَة: بے ایمان، غدار، بیوفا، نمک حرام، ناقابل اعتماد، غدارانہ، دغا باز، دھوکے باز، جھوٹا، دروغ گو۔

خو: خَوَّ ـُ خَوًّا ت الدارُ: گھر کا مسمار ہو جانا۔ ۔ت النجومُ: بغیر بارش ہوئے ستاروں کا غروب ہونا۔ الخَوّ: بھوک، کشادہ وادی۔ ۔و الخُوّ: شہد۔ الخُوَّة: کشادہ، زمین، فراخ زمین۔
خوی: ۱۔ خَوَى ـِ خَوَاءً البیتُ: گھر کا گرنا، منہدم ہونا، خالی ہونا۔ ۔رأسُهُ: نکسیر کی وجہ سے زیادہ خون نکلنے سے سر کا خون سے خالی ہونا۔ ۔خَوًى و خَوَاءً الرجلُ: خالی پیٹ ہونا، بھوکا ہونا۔ خَوِيَ ـَ خَيًّا و خُوِيًّا و خَوَايَةً المكانُ: جگہ کا خالی ہونا۔ خَوَّى تَخْوِيَةً البعيرُ: اونٹ کا بیٹھنے میں پیٹ کو زمین سے اونچا رکھنا اور دونوں یعنی پیٹ اور زمین کے مابین جگہ خالی ہونا۔ ۔الطائرُ: پرندے کا اڑنے میں دونوں بازوؤں کو لٹکانا۔ اَخْوَى اخواءً الرجلُ: آدمی کا بھوکا ہونا۔ اِخْتَوَى اِخْتِوَاءً: بے عقل ہونا۔ ۔الفرسَ: گھوڑے کی اگلی پچھلی ٹانگوں کے درمیان نیزہ مارنا۔ الخَوَى و الخَوَاء: خالی پیٹ ہونا، دو چیزوں کے درمیان خالی فضاء۔ خَوَاءُ الفرس: گھوڑے کی اگلی پچھلی ٹانگوں کے درمیان کی جگہ۔ الخَوِي: خالی پیٹ والا۔ الأَخْوَى مونث خَيَّاء و خَوْيَاء: بے عقل۔ الخَوِيّ: پست نرم زمین۔
۲۔ خَوَى ـِ خَوًّى و خَوَاءً الزندُ: چقماق کا آگ نہ دینا۔ ۔ت النجومُ: ستاروں کا بے بارش کے ہونا۔ أَخْوَى اِخْوَاءً الزندُ: چقماق کا آگ نہ دینا۔ ۔ت النجومُ: ستاروں کا بے بارش کے ہونا۔
۳۔ خَوَى ـِ خَوًّى و خَوَايَةً الشيءَ: چیز کو اچک لینا۔ اَخْوَى اِخواءً ما عند فلان: سے سب کچھ لے لینا۔ اِخْتَوَى اِخْتِوَاءً ما عند فلان: سے سب کچھ لے لینا۔ ۔البلدَ: شہر کو طے کرنا۔
۴۔ خَوَى ـِ خَيَّات النجومُ (فلك): ستاروں کا غروب ہونے کے لئے جھکنا۔
۵۔ خَوَّى و اَخْوَى تِ الماشيةُ: مویشی کا بہت موٹا ہونا۔
۶۔ الخَوَاء: پہلے وجود میں مادہ کے عناصر کی آمیزش (یونانی لفظ)
○ خَوَى ـِ خَوَاءً و خَوًّى: خالی ہونا، بھوکا ہونا۔ خَوِيَ ـَ خَوَاءً: خالی ہونا، ننگا ہونا، بے کیف ہونا، تیرہ و تار ہونا، اداس کرنے والا ہونا، اجاڑ ہونا، سنسان ہونا، اداس کرنے والا ہونا، اجاڑ ہونا، سنسان ہونا، غیر آباد ہونا، بنجر ہونا۔ خَوَاء و خَوًى: (پیٹ کا) خالی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونا، بھوک۔ خَاوٍ: خالی، اجاڑ، سنسان، بنجر، غیر آباد۔ بے کیف، تیرہ وتار، اداس کرنے والا خاوٍ علی عُرُوشِهِ: مکمل طور پر برباد، ویران، اجڑا ہوا، خاوِی الوفاض، بمعنی خالِي الوِفَاض: خالی ہاتھ، خالی تھیلا یا کیسہ لئے ہوئے، ایک مرتبہ کے شکار میں پکڑی جانے والی مچھلیوں کے بغیر خَاوَی ہ: سے مل جانا، کی صحبت میں شامل ہو جانا، کے ہمراہ ہونا، کے ساتھ ہونا، کا ہمسفر ہونا۔ خُوَی: چھوٹا بھائی۔ خُوَة: مواخات، بھائی پنا، بھائی چارہ، برادری، بھائی بندی، برادرانہ تعلقات، ایک ہی عقیدہ کے لوگ۔ مُخَاوٍ: برادرانہ، بھائی بندی کا، بھائی چارہ کا، دوستداری کا۔

خاب: خَابَ ـِ خَیْبَةً و تَخَیَّبَ: طلب میں ناکام ہونا، کی امید ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے۔ خَابَ سَعْیُهُ: اس کی کوشش ناکام رہی۔ خَیَّبَ و اَخَابَ هُ: کو ناکام کرنا، محروم کرنا۔ قدحٌ خَیَّاب: آگ نہ دینے والی چقماق۔ المَخَیبَة: ناکامی کا سبب وباعث۔

○ خَابَ ـِ خَیْبَةً: ناکام ہونا، ناکام رہنا، (منصوبہ وغیرہ) کا ٹھیک نتیجہ نہ نکلنا۔ محروم ہونا، مایوس ہونا، بے اثر ہونا۔ ناامید ہونا، کی (امید) کا ٹوٹنا، کی (توقع) کا باطل ہونا کی (امید) خاک میں ملنا، کی (آس) ٹوٹنا، (کے اخلاق) بگڑنا، مشین وغیرہ کا خراب ہونا۔ خَیَّبَ و اَخَابَ: ناکام کرنا، ۔ہ: کو ناکام بنا دینا، کی راہ میں حائل ہونا، مزاحم ہونا، کو بے اثر کرنا، (تجویز) کو خراب کر دینا۔ ۔آمالَهُ: کی امیدوں کو توڑنا، کی آس توڑ دینا۔ تَخَیَّبَ بمعنی خَابَ، خَیْبَة: ناکامی، منصوبہ (یا تجویز کی) ناکامی، خط کا پتے پر نہ پہنچنا، شکست، مایوسی، محرومی، ناکام رہنا، ناکامی نامیں فش ہونا، ناامیدی۔ وَلَدُ خَیْبة اور بِنتُ خَیْبَة: ناکارہ شخص۔ خَائِبٌ: ناکام، رائیگاں، لاحاصل، ناامید، مایوس۔

خات: خَاتَ ـِ خَیْتًا و خُیُوتاً: آواز کرنا۔

خار: ۱۔ خَارَ ـِ خَیْراً: صاحب خیر ہونا۔ ۔اللّٰهُ لكَ فی الأمر: اس کام میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بہتری کرے۔ خَایَرَهُ فی العلم فَخَارَهُ: علم میں کسی سے سبقت لیجانا۔ الخَیْر جمع خُیُور: خیر، بھلائی، چیز کا اپنے کمال کو پہنچنا۔ مال۔ جمع اَخْیار و خِیار: بہت خیر والا۔ خیر: اسم تفضیل، اَخْیَر کا مُخَفّف مونث خَیْرة۔ کہا جاتا ہے: فلانةٌ خَیْرَةُ الناس و خَیْرُهم: فلاں عورت سب لوگوں سے اچھی ہے۔ الخِیر: بزرگی، شرافت، اصل۔ الخَیْرَة جمع خَیْرات: بہت خیر والی عورت، عمدہ چیز۔ الخَیْرِیَّة: عمدگی، برتری۔ الخَیِّر مؤنث خَیِّرة: کریم۔ بزرگ الخَیْرَی و الخَوْرَی و الخُوْرَی و الخِیرَی: خیر میں اسمائے مبالغہ۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ خَیْرَی: بہت خیر والا آدمی۔

۲۔ خَارَ ـِ خِیْرَةً و خِیَرَةً و خِیَراً الشیءَ علی غیره: ایک چیز کو دوسری پہ فضیلت دینا، برتری دینا۔ ۔هُ: کو منتخب کرنا، پسند کرنا اسی سے ہے: اَللّٰهُمَّ خِرلی: اے اللہ میرے لئے دونوں باتوں میں سے بہتر کا انتخاب فرما۔ خَیَّرَ الشیءَ علی غیره: ایک شئے کو دوسری پہ فضیلت دینا، برتری دینا۔ ۔و خَایَرَهُ فی الامر و بین الامرین: کو دونوں باتوں میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دینا۔ تَخَیَّرَ و اخْتَارَهُ: کو چن لینا، منتخب کرنا، کا ذخیرہ کرنا۔ اِستَخَارَ اِستِخَارَةً: بھلائی و خیر طلب کرنا۔ ۔اللّٰهَ: خدا تعالیٰ سے دعا کرنا کہ بہتر کام اس کے حق میں پسند فرمائے۔ الخِیرَة والخِیَرَة من الشیء او القوم: افضل واعلیٰ چیز یا قوم۔ الخِیار: پسندیدگی۔ کہا جاتا ہے: انتَ بالخِیار: تم جو چاہو پسند کرو۔ خِیارُ الشیء: افضل واعلیٰ چیز۔ الأَخْیَر مونث خِیْرَی و خُوْرَی جمع اخایر: زیادہ اچھا۔ المُختَارُ (مفع): کہا جاتا ہے: انتَ بالمختار: جو چاہو پسند کرو۔

۳۔ الخِیُرُ: ہیئت۔ الخِیار (واحد خِیارَة) (ن): ککڑی، کھیرا۔ خِیار شَنْبَر (ن): املتاس الخِیُری (ن): ایک پھولدار نبات۔ الخَیْرِیَّة: سلطنت عثمانیہ کا ایک پرانا سکہ۔

○ خَارَ ـِ خیراً: چننا، انتخاب کرنا، ۔ہ علی: کو پر ترجیح دینا۔ خَیَّرَهُ بین ۔ فی ۔: کو میں سے، سے کسی چیز کے انتخاب کا اختیار دینا کو میں سے، سے کسی چیز کے چناؤ، انتخاب، یا اختیار کرنے یا پسند کرنے کا حق دینا یا متبادل صورت دینا۔ ۔ہ علی: کو پر ترجیح دینا۔ خَایَرَہ: کا مقابلہ کرنا، کے خلاف حصہ لینا۔ خَایَرَہ: کا مقابلہ کرنا، کے خلاف حصہ لینا۔ کو انتخاب یا چناؤ کرانا یا کرنے دینا، کو اختیار، حق انتخاب یا متبادل صورت دینا۔ تَخَیَّرَ ہ/ہ: کو چننا، منتخب کرنا، توڑنا، اکٹھا کرنا۔ اِختَارَ: چننا، منتخب کرنا۔ ۔ہ/ہ: کو چننا، منتخب کرنا، کا انتخاب یا چناؤ کرنا، کو توڑنا۔ اکٹھا کرنا، کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرنا۔ ۔ہ علی: کو پر ترجیح دینا۔ اِختَارَ اللّٰهُ الی جوارِہ ـ اللّٰہ تعالیٰ ـ کو اپنے پاس لے گیا۔ اِستَخَارَہ ہ: سے اپنے لئے اچھی یا بہتر (چیز) طلب کرنا یا کی درخواست کرنا۔ ۔: رہنمائی کے لئے ۔۔۔ جاء ۔۔۔ انداز ی کرنا۔ استخار اللّٰهَ فی: میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہنا۔ خَیْر جمع خِیار و اَخْیار: اچھا، عمدہ، اعلیٰ، ممتاز، برتر، قابل تعریف، بہتر، بہترین۔ جمع خُیُور: اچھی چیز، خدا کی رحمت، دولت، مال، فراوانی، کثرت، تونگری، جائیداد، خیر، نیکی، نفع، فائدہ، مفاد، فوقیت، غلبہ، بہبود، بہبودی، خیرات۔ خیرُ الناس: بہترین شخص خِیارُ الناس و اَخْیارُ الناس: بہترین لوگ، نسل انسانی کا انتخاب۔ ھو خیرٌ منك: وہ تم سے بہتر ہے۔ ھو خیر لك: یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ الخیر کل الخیر: بہت ہی بہترین۔ الخیر العام: رفاہ عام، رفاہِ عامہ، بہبودِ عام۔ دولة الخیر العام: رفاہی ریاست لِخَیرِ: کے فائدہ کے لئے۔ لِخَیرِ أنفُسِهِم: ان کی اپنی بھلائی کے لئے اعمال الخَیر: خیراتی کام صباحَ الخَیر اور صباحك بالخیر: سلام، صبح بخیر۔ ذَکَرَهُ بالخیر: کا اچھا تاثر رکھنا، کی تعریف کرنا۔ خَیْرِی: خیراتی، سخی، فیاض، فیض رساں بہی خواہ، انسانی دوستی کا، ہمدردانہ جَمْعِیة خَیْرِیَّة: خیراتی ادارہ۔ خَیْرِیَة: خیرات، فیاضی، انسانی ہمدردی، سخاوت، کرم، نیک دلی، بہی خواہی، خیر خواہی، خیر اندیشی، کرم، فیض رسانی، کرم فرمائی، نیکی، بھلائی، احسان۔ خَیِّر: سخی، فیاض، آزاد خیال، حریت پسند، حاتم، فیاضانہ، خیراتی، مُخَیِّر: کرم فرما، مہربان، فیض رساں، بہی خواہ، خیر خواہ شفیق، نیک دل، خَیْرَة جمع خَیْرات: اچھا کام، اچھی چیز۔ جمع خَیْرات: (زمین یا ملک) کے قدرتی وسائل، خزانے، نعمتیں، برکتیں۔ خِیْرَة و خِیَرَة: بہترین انتخاب، شروع، آغاز، شباب، کسی چیز کا بہترین حصہ، عرق یا جوہر، انتخاب، چیدہ، خِیْرِی: ایک قسم کا پھول جس سے لونگ کی خوشبو آتی ہے۔ اَخْیَر مؤنث خِیَری و خَوَری جمع اَخَایِر: بہتر، برتر۔ خِیار: چناؤ، انتخاب، پسند یا انتخاب کا اختیار، قوت انتخاب کا استعمال، پسند یا ناپسند کا اختیار، دست برداری کا حق۔ بہترین، انتخاب، آغاز، شروع، کسی چیز کا بہترین حصہ، عرق یا جوہر، چیدہ۔ خِیارِی: پسند پر موقوف، اختیاری، رضاکارانہ۔ اِختِیار: چناؤ، انتخاب (جمع اختیارات) (۔علی: پر ترجیح) پسند یا انتخاب کا اختیار، آزاد اختیار کا ارادہ۔ اِختیاراً: اپنی مرضی سے، رضاکارانہ طور پر، آپ سے آپ، اپنے آپ، خود بخود۔ اِختِیارِی: رضاکارانہ، انتخابی (مطالعات)۔ مُخَیَّر: پسند یا انتخاب کا اختیار رکھنے والا۔ مُختَار فی: چناؤ، پسند یا انتخاب میں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آزاد۔ مُخْتَاراً: رضا کارانہ، خودبخود، طبعی طور پر، اپنی مرضی سے۔ مُخْتَار: چنا ہوا، ترجیح دیا ہوا، منتخب، پسندیدہ چیدہ، عمدہ، نفیس، مقبول، منظور نظر، دلپسند، پسندیدہ۔ مُخْتَارَات: انتخاب، منتخب تحریریں، منتخب کلام، منتخب فقرے، گلدستہ نظم۔ (جمع مَخَاتِیر) گاؤں کا چودھری۔

حیر الخیزران: دیکھو خزر۔

خاس ۱۔ خَاسَ ـِ خَيْساً اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔

۲۔ خاس ـِ خَيْسًا: کم ہونا۔ ـ البیعُ: سرد بازاری ہونا۔ خَيَّسَ هُ: کو کم کرنا۔

۳۔ خاس ـِ خَيْسًا و خَيَسَانًا بالعهد: عہد شکنی کرنا، بیوفائی کرنا، دغا دینا۔ ـ بالوعد: وعدہ خلافی کرنا۔

۴۔ خَاسَ ـِ خَيْسًا الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ الـخَيْس: جھوٹ۔

۵۔ خَاسَ ـِ خَيْسًا الرجلُ: ذلیل ہونا۔ ـ الرجلَ او الـدابَّةَ: کسی آدمی یا جانور کو مطیع و تابع دار کرنا۔ خَيَّسَ هُ: کو مطیع و تابع دار بنانا۔ کہا جاتا ہے خَيَّسَ الجمل: اونٹ پر سوار ہو کر اس کو سدھانا، رام کرنا، کو روکنا۔ الـمُخَيَّس و الـمُخَيِّس: جانور کو سدھانے کی جگہ۔ جیل، قید خانہ۔

۶۔ الـخَنس: غم، گمراہی، خیر و بھلائی۔ الـخِيْس جمع اَخْيَاس: گنجان اور گھنا درخت، شیر کی جھاڑی۔ الخِيسة جمع خِيَس: شیر کی جگہ۔

○ خَاسَ ـِ خَيْسًا و خَيَسَانًا ب: (عہد یا وعدہ) پورا نہ کرنا۔

خاش: خَاشَ ـِ خَيْشًا مافی الوعاء: برتن کی چیز نکال دینا۔ الـخُيُش: کمینہ آدمی۔ ـ جمع خُيُوش و اَخْيَاش (واحد خَيْشَة): کتان کا بنا ہوا کھردرا کپڑا۔ مِرْوَحَةُ الـخَيْش: کتان کے کھردرے کپڑے کا پنکھا، جسے اہل عراق گیلا کر کے چھت سے لٹکایا کرتے تھے اور اس سے بندھی رسی کو بار بار کھینچنے سے کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی تھی۔ الـخَيَّاش: کتانی کھردرا کپڑا بیچنے والا۔

○ خَيْش: سن کا کپڑا، ٹاٹ، کرمچ، ولائتی ٹاٹ، بوریا کینوس (Can vas)۔ خَيْشَة: ٹاٹ، بورے، سن کے کپڑے کا ٹکڑا (جمع خَيْشَات و خِيَش): بورا، تھیلا، گھاس پھوس کی چٹائی۔ نیچے کا موٹا گدا، پیالی۔ بدوی خیمہ۔

خاص ۱۔ خَاصَ ـِ خَيْصًا: تھوڑا ہونا صفت: خائِص الـخُيُص: تھوڑی سی چیز۔ کہا جاتا ہے نلتُ منه خَيْصًا خَائِصًا: میں نے اس سے تھوڑی سی چیز پائی۔ الـخَيْصَى: تھوڑی (چیز)۔ کہا جاتا ہے: فی المرعی خيصىً من العشب: چراگاہ میں گھاس تھوڑی سی ہے۔ الخَيْصان: تھوڑا مال۔

۲۔ خَيِصَ ـَ خَيَصًا: چھوٹی بڑی آنکھوں والا ہونا۔ صفت: اَخْيَص مؤنث خَيْصاء۔

خاط: ۱۔ خَاطَ ـِ خَيْطاً الثوبَ: کپڑا سینا صفت فاعلی خَائِط و خَاطٌ و خَيَّاط۔ صفت مفعولی: مَخِيط و مَخْيُوط بمعنی سلا ہوا کپڑا۔ خَيَّطَ الشيبُ فی رأسه: سر میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا۔ تَخَيَّطَ رأسُهُ بالشيب: سر میں بڑھاپے کے آثار شروع ہونا۔ الخَيْط جمع خُيُوط و خُيُوطة و اَخْيَاط: دھاگا، ڈورا تلی، ڈوری، پیکٹ یا گڈی باندھنے کی رسی پھول کے زرعضو کا ریشہ دار حصہ جو بنیادی چیز کا حامل ہوتا ہے۔ الخَيْط الأبيَض: صبح کی روشنی۔ الـخيط الأسود: رات کی تاریکی۔ خَيْطُ باطِلٍ: ترمرے۔ کہا جاتا ہے هو ادقُّ من خيطِ باطلٍ: وہ ترمروں سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ الـخِيَاط و المِخْيَط: سوئی۔ الخِياطَة: درزی کا پیشہ۔

۲۔ خَاطَ ـِ خَيْطَانًا الحَيَّةُ: سانپ کا زمین پر رینگنا۔ اسی سے ہے: هذا مَخِيطُ الحيّة: یہ سانپ کے رینگنے کی جگہ ہے۔

۳۔ خَاطَ ـِ عليه خَيْطَةً: پر ایک ہی دفعہ گزر جانا یا تیزی سے گزر جانا۔ اِخْتَاط و اِخْتَطَى اليه: پر ایک ہی دفعہ گزرنا یا تیزی سے گزرنا۔

۴۔ الخَيْط جمع خِيطان من النعام او الجراد: شتر مرغ کا ریوڑ یا ٹڈی دل۔ ـ من الرقبة: حرام مغز۔ کہا جاتا ہے: جاحشَ عن خَيْطِ رقبته: اس نے اپنے خون کا دفاع کیا۔ خَيْطُ باطلٍ: ہوا۔ الخِيط والـخَيْطَى من النعام او الجراد: شتر مرغ کا ریوڑ یا ٹڈی دل۔

○ خَاطَ ـِ خَيْطًا و خَيَّطَ هُ: کو سینا، ٹانکے لگانا، کا بخیہ کرنا، کی سلائی کرنا۔ خَيْط جمع خُيُوط و اَخْيَاط و خِيطان: دھاگا، تلی، ڈوری، بان، رسی، ریشہ، پیکٹ یا گڈی باندھنے کی رسی، فیتہ، تار، سوت، ریشہ دار چیز۔ خيطُ اَمَلٍ: امید کی کرن۔ خَيْطِيّ: ریشہ دار، دھاگے جیسا۔ خِياطه: سوئی۔ خِياطَة: سینا، سلائی، سوئی سلائی کا کام، گون دوزی۔ آلَةُ الخِياطَة: سلائی کی مشین۔ خَيَّاط جمع خَيَّاطون: درزی۔ خَيَّاطَة جمع خَيَّاطَات: گون دوز، درزن۔

مِخْيَط: سوئی۔ خَائِط: درزی۔

خیع: خَيْعَلَ هُ: کو بلا آستین کی قمیض پہنانا۔ تَخَيْعَلَ: بلا آستین کی قمیض پہننا۔ الـخَيْعَل: بلا آستین قمیض (ح): بھیڑیا، چھلاوہ، غول بیابانی۔

خیف: ۱۔ خَيِفَ ـَ خَيَفاً: ایک نیلی اور دوسری سرگمیں آنکھوں والا ہونا۔ صفت: اَخْيَف مؤنث خَيْفَاء جمع خِيف۔ تَخَيَّفَ اَلْواناً: مختلف رنگوں والا ہونا، رنگ برنگ ہونا۔ الـخَيْفان (واحد خَيْفَانَة) (ح): رنگ برنگ پروں والی ٹڈی۔

۲۔ خَيَّفَ عن القِتال: لڑائی سے منہ موڑنا۔

۳۔ خَيَّفَ القومُ: کسی جگہ اترنا۔

۴۔ خَيَّفَتِ المرأةُ باولادها: اخیافی بھائیوں کی ماں ہونا۔ الاَخْيَاف: مختلف لوگ۔ کہا جاتا ہے هم اخوةٌ اَخْيَاف او بنو اخياف: ان کی ماں ایک اور باپ الگ الگ ہیں۔ وہ ماں کی طرف سے بھائی۔ ماں جائے بھائی ہیں۔

۵۔ الـخَيْف: پہاڑ کے دامن میں اونچی نیچی زمین۔ پانی بہنے کی جگہ سے اونچی جگہ۔ تھن کی کھال۔ الـخَيْفَة: چھری، شیر کی جھاڑی۔ الـخَيْفَاء جمع خَيْفَاوات و خِيف: کشادہ تھنوں والی۔ الـخَيْفان (واحد خَيْفَانَة): لوگوں کی کثرت۔ (ن): ایک پہاڑی بوٹی۔

خال: ۱۔ خَالَ ـَ خَيْلاً و خِيلاً و خَالاً و خَيْلَة و خِيلَةً و خَيَلاناً و خَيْلُولَةً و مَخِيلَةً و مَخَالَةً الشیءَ: کا خیال کرنا، گمان کرنا۔ اس کا مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ اِخالُ و اَخَالُ ہے۔ خُيِّلَ اِلیه و لَهُ انَّهُ کذا: ایک چیز کو وہم سے کوئی اور چیز خیال کرنا۔ خَيَّلَ تَخْيِيلاً السحابُ: بادل کا گرجنا، چمکنا اور برسنے کے قریب ہونا۔ ـ فیه الخیرَ: میں بھلائی کے نشان معلوم کرنا۔ ـ تخییلاً و تَخْيَالاً علیه: پر تہمت لگانا۔ خَايَلَتِ السحابة: بادل کا بارش کی امید دلانا۔ اَخْيَلَتِ السماءُ: بادل کا برسنے کے لئے تیار ہونا۔ ـ ت الناقةُ: اونٹنی کے تھنوں میں دودھ ہونا۔ ـ القومُ: ایسے بادل کو دیکھنا جس سے بارش کے برسنے کی امید کی جائے۔ اِخَالَ القومُ: بمعنی اَخْيَلَ القومُ: یعنی ایسے بادل کو دیکھنا جس سے بارش برسنے کی امید کی جائے۔ علیه الشیءُ: کا کسی پر دشوار و مشتبہ ہونا۔ تَخَيَّلَ له انه کذا: شبہ ہونا اور وہم ہونا کہ وہ ایسا ہے۔ ـ ت السحابةُ: بادل کا بارش کے نشانات لے کر ظاہر ہونا۔ ـ هُ: کو فراست سے معلوم کرنا۔ ـ فیه الخیرَ: میں بھلائی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے نشان معلوم کرنا۔ — علیہ: میں فراست سے بھلائی کا پتہ لگانا۔ اِسْتَخَالَ السحابۃ: بادل کو دیکھ کر اس کو برسنے والا خیال کرنا۔ الـخـال جمع خیلان: گمان، وہم۔ ضرور برسنے والا بادل، بجلی، تخی آدمی۔ الـخَیَال جمع اَخْیِلَۃ: گمان، وہم۔ — والـخَیَالَۃ جمع خَیَالَات: خواب میں دکھائی دینے والی صورت۔ شکل انسانی، سایہ، وہمی صورت۔ خیال۔ دھوکا یعنی کھیتوں میں نصب کی ہوئی وہ بناوٹی انسانی شکل جس کو دیکھ کر جانور اور پرندے ڈریں۔ اور اس کو انسان سمجھیں۔ الـخَیَالَات: بیداری میں دکھائی دینے والے انسانوں اور درندوں کی صورتیں جو پاگل پن اور بخاروں کے اعراض ہوتے ہیں۔ (طب): آنکھ کے سامنے محسوس ہونے والے رنگ گویا وہ فضا میں پھیلے ہوئے ہیں اور مچھروں وغیرہ جیسی شکلیں جو ہوا میں پھیلی ہوتی ہیں اور غالباً آنکھ میں پانی اترنے کا اعلان ہیں۔ الـمـخِیل: بھلائی کا اعلان کرنے والا، جس سے نیکی کی امید کی جائے کـلامٌ مخیل: مشکل کلام۔ الاخیـل: ایک بدشگونی کا پرندہ۔ الـمُـخَیِّلَۃ والـخَیَـالِیَۃ: قوت متخیلہ یا خیالیہ۔ الـسَّـحَـابَۃُ المُخِیلۃ و المَخِیْلَۃ و المُخَیِّلَۃ و المختالۃ: وہ بادل جس کے برسنے کی امید ہو۔ الـمَـخِیلَۃ جمع مَخَایِل: بدگمانی، اندیشہ وسوسہ۔ الـمَـخَایِل من السُّحُب: بارش کی امید دلانے والے بادل اسی سے ہے: ظهرت فیـه مَـخَـایِلُ النَّجَـابۃ: اس میں شرافت کی نشانیاں نمایاں ہوگئیں۔

۲۔ خَیَّلَ تَخییلاً عَن الـقـوم: کمزور اور بزدل ہونا۔ الـخَال جمع خِیلان: کمزور دل یا کمزور جسم والا آدمی۔

۳۔ خَـایَلَ ہٗ: سے فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ تَـخَیَّـلَ الرجلُ: تکبر کرنا۔ تَخَایَلَ تَخَایُلاً و اِخْتَالَ اِخْتِیالاً: اکڑ کر چلنا، تکبر کرنا۔ الـخَال جمع خِیلان: تکبر، متکبر آدمی۔ الـخَالۃ: مغرور عورت۔ الـخائل جمع خالۃ: متکبر، مغرور۔ الأَخَایِل: متکبر، مغرور۔ کہا جاتا ہے: رجـلٌ اُخَـایِـلٌ: متکبر آدمی۔ الخُیَلاء و الخِیَلاء و الخَیلۃ: خود پسندی، غرور۔

۴۔ اَخْیَلَ و اِخْتَالَ المکانُ بالنبات: جگہ کا سبزہ سے بھرا ہوا ہونا۔ ارضٌ مُـخَیِّلَۃ و مُتَخَایِلَۃ: اپنی مدت پر آ کر پھولنے والی زمین۔

۵۔ تَخَیَّلَ علیہ: کو پسند کرنا۔

۶۔ الخَال جمع خِیلان: بڑا پہاڑ، جھنڈا، نرم کپڑا۔ بے بیوی والا، چھوٹا ٹیلہ، گھوڑے کی لگام، کفن: بدن کا تل۔ گال کا تل، — من النسب: ماموں (دیکھو خول) الـخَیـل جمع خُیـول و اَخْیَال: گھوڑوں کا گروہ۔ مجازاً سوار گھڑسوار۔ کہا جاتا ہے: أَتـی بِـخَیْلِہٖ و رَجِلِہٖ: وہ سواروں اور پیادوں کو لے آیا۔ الأَخْیَل م خَیْلاء جمع خِیْـل و اَخَایِل: بدن پر تل رکھنے والا۔ — والمـخیَل و المَخْیُول: بدن پر تل والا۔ الخَیْلان: ایک سمندری جانور جو آدھا انسان اور آدھا مچھلی ہوتا ہے۔ الخَیَّال جمع خَیَّالۃ: سوار، گھوڑوں والا۔ الـخَیلِیات (ح): گھوڑے، گدھے وغیرہ پر مشتمل جانوروں کی ایک قسم۔

○ خالَ ـِ اَنْ: تصور کرنا کہ، خیال کرنا کہ، یقین کرنا کہ، فرض کرنا کہ، گمان کرنا کہ۔ — ہ کو کوئی سمجھنا، خیال کرنا، تصور کرنا، قیاس کرنا۔ — ہ ہ کو کچھ سمجھنا، خیال کرنا، تصور کرنا۔ خَیَّلَ الی ان: کو باور کرانا کہ — الی ہ: کو کا خیال دلانا، کو کی تجویز پیش کرنا، کو تاثر دینا کہ۔ خُیِّلَ الیه (لَہٗ) ان: اس نے تصور کیا، گمان کیا یا خیال کیا کہ......اسے ایسا لگا کہ، اسے معلوم ہوا جیسے۔ علی ما خَیَّلَتْ النفسُ: جیسا کہ دل کہتا ہے، اگرچہ اس کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، جیسا کہ ہوتا ہے، بے جھجک، بے سوچے سمجھے۔ اَخْیَـلَ: مشکوک ہونا، مشتبہ ہونا، تذبذب ہونا، غیر یقینی ہونا، پیچیدہ ہونا، مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ تَـخَیَّـلَ ہ: کا تصور کرنا، کا گمان کرنا، —ل: کے دل میں آنا۔ کا تصور کرنا، کو لگنا۔ تَـخَیَّلَ فیه الخیر: میں اچھی خصوصیات کا شبہ کرنا، کی اچھی خاصیتوں کا گمان کرنا، کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ تَـخَایَلَ لِ ب: کو جھوٹ موٹ جتانا کہ، کے سامنے ایسا کرنا جیسے — : خود غلط یا خود بین محسوس کرنا، خود پسند ہونا، متکبر ہونا، مغرور ہونا، شان و شوکت دکھانے کا رویہ اختیار کرنا، اینٹھ کر چلنا، تحکمانہ انداز اختیار کرنا، اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، عجیب عجیب خیالات سوچنا، ہر قسم کی وہمی اور خیالی تصورات رکھنا، سنکی ہونا، کسی بات کا خبط ہونا، مدہم اور وہمی خاکوں میں ظاہر ہونا۔ — علی: میں نظر آنا، پر دکھائی دینا، کے چکر لگانا۔ کے گرد و پیش پھرتے رہنا، کے لبوں پر (مسکراہٹ) نمودار ہونا، کے چہرہ پر سایہ سا گزر جانا۔ اِخْتَالَ: بر خود غلط یا خود بین محسوس کرنا، خود پسند ہونا، شان و شوکت دکھانے کا رویہ اختیار کرنا، اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا۔ خَیَال جمع اَخْیِلَۃ: جسم سے آزاد روح، بھوت، مردے کی روح جو مجسم نظر آئے، پیکر خیالی، طیف، خیال، تخیل، تصور، وہم، وہم کی پیداوار، وہمی صورت، خواب خیال، خواب کی باتیں، ہوا، خیال باطل، خام خیالی، سایہ، شائبہ، جھلک، مدھم عکس یا انعکاس۔ خیال شك: ذرا سا شک۔ خیـالُ الصحـراء: ڈراؤنا پتلا۔ جو پرندوں اور جانوروں کو بھگانے کے لئے کھڑا کیا جائے۔ خیـال الظِل: سائے کا کھیل۔ خَیَالَۃ جمع خیالات: بھوت، روح، پیکر خیالی طیف، وہم، وہم کی پیداوار، وہمی صورت، تصور، تخیل، خواب خیال، خواب کی باتیں، خیال باطل، ہوا۔ خَیَالِی فرضی، موہوم، ذہنی، غیر حقیقی، وہمی، خیالی، تصوری، فکری، ذہنی، باطنی، عالم مثال کا، تصوراتی، تصور کا، مثالی۔ اَخْیَل: زیادہ ڈھیٹ، زیادہ مغرور، زیادہ متکبر، زیادہ خود پسند، زیادہ اکڑ باز۔ اَخْیَل جمع خِیل و اَخَایِل: سبز رنگ کا کٹھ پھوڑا (پرندہ) خُیَلَاء (مونث) گمان، تکبر، خود پسندی، خود بینی، نخوت، تمکنت، شیخی، ناز، گھمنڈ، خود آرائی آن بان، جاہ و جلال: الـخُیَلَاء: تکبر سے غرور سے، کبر و نخوت سے۔ خَیـلُولَۃ: گمان، تکبر، خود پسندی، خود بینی: بیجا غرور، امارت پرستی۔ بد دماغی تکبر، غرور، تمکنت نخوت، کبر۔ مَـخِیلَۃ: گمان، تکبر، خود پسندی، خود بینی، بیجا غرور، امارت پرستی بد دماغی، تکبر، غرور، تمکنت، نخوت (جمع مَخَایِل) نشان، علامت، طبعی خصوصیت، نمایاں صفت گن، خصوصیت، خاصہ۔ جمع مخایل: نظر، نگاہ، بینائی، جو چیز نظر آئے، سایہ بھوت، سراب، دھوکا، ذہنی تصورات، صورتیں، مورتیں مجسمے، پتلے، شبیہیں، تصورات۔ تخییل: ڈرامے میں کوئی کردار ادا کرنا۔ فَـنُّ تـخـییـل: ڈرامہ کا فن۔ تَـخَیُّـل جمع تَخَیُّلات: تصور، قوت خیال، سراب، وسوسہ وہم، خیال خام، فریب خیال، فریب نظر، تصور کا دھوکا واہمہ، خیال، من کی موج، نرالہ خیال۔ تَـخَیُّـلِیّ: عجیب، نرالا، وہمی خیالی، انوکھا، فرضی، قیاسی، موہوم، فرضی، ذہنی۔ اِختِیـال: خود بینی، غرور، تکبر، شیخی، ناز، گھمنڈ، نخوت، خود پسندی خود آرائی، آن بان، جاہ و جلال، بد دماغی، گستاخی، تمکنت، خود بینی، نخوت۔ مُـخَیِّلَۃ قوت متخیلہ، پرواز فکر، قوت خیال، قوت واہمہ خیالی شکلیں پیدا کرنے والی طاقت۔ مُـخِیـل: مشکوک، مشتبہ، غیر واضح، غیر یقینی، پیچیدہ، مشکل، دشوار، دھندلا، مبہم، الجھا ہوا، بوکھلایا ہوا، پریشان کن، حواس باختہ کرنے والا۔ مُختَال: مغرور، متکبر، شیخی باز، خود بین، خود پسند، اکڑ باز، ڈھیٹ، بدلحاظ گستاخ، دیدہ دلیر۔

○ خَیَّـلَ: (گھوڑے کی پیٹھ پر) سرپٹ دوڑنا۔ خیـل

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جمع خُیُول: گھوڑے، گھوڑے کی طاقت (horsep ower) سِباقُ الخیل: گھڑدوڑ۔
خَیّال جمع خَیّالة و خَیّالُون: گھوڑا سوار، سوار۔
خَیَّالة: گھوڑے سوار فوج، سواروں کا رسالہ۔ سَرِیَّةُ خَیَّالَة: گھوڑے سوار فوج کا دستہ۔

خام: ۱۔ خَامَ ـِ خَیْماً و خَیَمَانًا و خُیُومًا و خُیُومَةً و خِیامًا و خَیْمُومَةً: کسی جگہ اقامت کرنا۔ خَیَّمَ: خیمہ لگانا، نصب کرنا، خیمہ میں رہنا، ۔بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ۔ت الکرمةُ: انگور کی بیل کا خیمہ کی طرح چھا جانا۔ ۔ت البقرُ: گائیوں کا اپنے تھان پہ کھڑے رہنا۔ اَخَامَ اِخَامةً و اَخْیَمَ اِخیاماً الخیمةَ: خیمہ نصب کرنا۔ تَخَیَّمَ المکانَ و بالمکان و فیہ: کسی جگہ اپنا خیمہ نصب کرنا۔ الخَیْمَة جمع خِیَم و خِیام و خَیْمات و خُیَم: خیمہ، ڈیرہ، ہر وہ گھر جو اینٹ پتھر مٹی وغیرہ سے نہ بنایا گیا ہو۔ الخِیامَ: اونٹ کی عماریاں ہودے۔ الخَیَّام: خیمہ میں رہنے والا، خیمے بنانے والا۔ الخَیْمِی: خیمے بنانے والا، خیمے بیچنے والا۔ المُخَیَّم: خیمہ گاہ۔ الخِیمیات (ن): پودوں کی ایسی قسم جن کے پھول خیمے کی شکل کے ہوتے ہیں۔

۲۔ خَامَ ـِ خَیْمًا و خَیَمانًا و خُیُومًا و خُیُومَةً و خِیامًا و خَیْمُومَةً عن: بزدل ہونا، پیچھے لوٹنا۔ ۔القومُ فی القتال: جنگ میں کامیاب نہ ہونا۔

۳۔ خَامَ ـِ خَیْمًا و خَیَمانًا و خُیُومًا و خُیُومَةً و خِیامًا و خَیْمُومَة رجلَہُ: پاؤں اٹھانا۔ اَخَامَ اِخامَةً و اُخْیَمَ اِخْیَامًا الفرسُ: گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔

۴۔ خَیَّمَ الریحَ فی الثوب: کپڑے میں خوشبو بسانا۔ تَخَیَّمَتِ الریحُ الطیبة بالثوب و فیہ: کپڑے میں خوشبو کا بس جانا اور کپڑے کا مہکنا۔

۵۔ الخَام جمع اَخْوام: وہ شے جس پر کاریگر کا ہاتھ نہ لگا ہو مثلاً وہ الماس جو صیقل نہ ہوا ہو، وہ پتھر جس کو سنگ تراش نے نہ تراشا نہ ہو، وہ چمڑا جس کو دباغ نے رنگا نہ ہو اور وہ کپڑا جس کو دھوبی نے اجلا نہ کیا ہو۔ روئی کا بنا ہوا کپڑا۔ الخامَة جمع خام و خامات: تر و تازہ گھاس۔ الخِیم: طبیعت، خصلت، تلوار کا جوہر۔

○ خَیَّمَ فی / ب: میں (سکون، خاموشی امن کا) طاری ہونا، پر حکمرانی کرنا۔ خَیْمَةٌ جمع خیمات و خیام و خِیَم: خیمہ، ترپال، کنج، حملہ، شہ نشین سراپردہ، کھیل کے میدان کا بنگلہ (pavilion) مُخَیَّم: ڈیرہ فرودگاہ پڑاؤ۔ خیمہ گاہ، پڑاؤ، چھاؤنی۔ اَخَذَ خِیمَتَہُ: کی نبض دیکھنا، کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ خِیم: طبیعت، مزاج، کردار، رجحان، جھکاؤ، رغبت، میلان۔

○ خام: حروف تہجی کی ترتیب سے دیکھئے۔

○ خَیَّة جمع خَیَّات: پھندا۔ کمند، جال۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

د

د: تلفظ دال۔ حروف تہجی کا آٹھواں حرف، حروف ابجد میں ۴ کے برابر ہے۔

داب: دَأَبَ۔ دَأْباً و دَأَباً و دُؤُوباً فی العمل: کوشش و محنت سے کوئی کام کرنا، کام کر کے تھک جانا۔ صفت دَائِب و دؤُدب دَأَباً و دَأَباً الدَّابَّةَ: جانور کو تیز ہانکنا۔ اَدْأَبَ اِدْآباً: کو تھکا ڈالنا، کو پیہم کوشش کا ضرورت مند بنانا۔ الدَّئِب: تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ اَلدَّأَب و الدَّأَب (مص): کوشش و مشقت سے کوئی کام برابر کرتے رہنا۔ کسی کام میں لگا رہنا۔

۲۔ دَأَبَ۔ دَأْباً و دَأَباً و دُؤُوباً فی العمل: کسی کام کو برابر کرتے رہنا۔ صفت: دَائِب و دَؤُوب۔ اَدْأَبَ اِدْآباً: کو جاری رکھنا۔ الدَّائبان: رات اور دن۔ الدأب و الدَّأَب: عادت، شان۔

۳۔ دَأَبَ۔ دَأْباً و دَأَبَهُ: کو دھتکارنا، ہکارنا۔

○ دَأَبَ۔ دَأْباً و دَأَبا و دُؤُباً فی / علی: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، میں انتھک ہونا، کو لگاتار کرنا۔ علی: میں حصہ لینا، شریک ہونا، کو تن دہی سے کرنا، میں کلیتہً لگ جانا، کو سرگرمی سے کرتے رہنا۔ دَأْب جمع اَدْؤُب: عادت۔ دَأَب و دَأْب و دُؤُوب: استقلال، ثابت قدمی، بے حد محنت، انتھک ہونا، تن دہی، مشقت، شوق، سرگرمی۔ دَؤُوب: ان تھک، ثابت قدم، مستقل مزاج، متواتر، پے در پے، اَدْأَب: زیادہ ثابت قدم، زیادہ محنتی۔

○ دَادَة: آتون، آتو، آتوجی، گورنس، آیا، دایہ، کھلائی۔

دأث: دَأَثَ۔ دَأْثاً: بوجھل ہونا۔ الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔ الثوبَ: کپڑے کو میلا کرنا۔ الدِّئث: سخت کینہ۔ الدَّأْثاء جمع دَأْثٍ: چھوکری، لونڈی۔ ابنُ دَأْثاء: احمق۔

دادا: دَأْدَأَ دَأْدَاةً و دِنْدَاءً۔ بہت تیز دوڑنا۔ دَأْدَأَ دَأْدَاةً و دِنْدَاءً فی اِثْرِہ: کھوج لگانے کے لئے کسی کے پیچھے جانا۔

۲۔ دَأْدَأَ دَأْدَاةً و دِنْدَاءً الشیءَ: کو ڈھانپنا۔

۳۔ دَأْدَأَ۔ دَأْدَأَةً و دِنْدَاءً الشیءَ: کو حرکت دینا، سکون میں لانا (ضد)۔ تَدَأْدَأَ: حرکت کرنا، ٹھہر جانا (ضد)

۴۔ تَدَأْدَأَ عن فرسه: گھوڑے سے گر جانا۔ الحجرُ: پتھر کا لڑھکنا

۵۔ دَأْدَأَ دَأْدَأَةً و دِنْدَاءً القومُ: لوگوں کا ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا۔ تَدَأْدَأَ القومُ: الوگوں کا ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا۔

۶۔ تَدَأْدَأَ عنه: سے مائل ہونا، جھکنا۔ فی مشیه: چال میں لڑکھڑانا۔

۷۔ الدَّأْدَأُ و الدَّأْدَاء و الدَّأْدَاءَة جمع دَآدِیء من اللیالی: سخت اندھیری رات۔

دار: ۔ الدَّارَ صِینِی (ن): دارچینی۔

داص: دَئِصَ۔ دَأَصاً: اترانا۔ البعیرُ: اونٹ کا فربہ ہونا، پرگوشت ہونا۔ الدَّاَص: فربہی، پرگوشت ہونا۔

داظ: دَأَظَ۔ دَأْظاً الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ الرجلَ: پیٹ بھرے کو زبردستی کھلانا، غضبناک کرنا، کا گلا گھونٹنا۔ القرحةَ: زخم کو دبا کر نچوڑنا۔ دَأَظَ: فربہ ہونا، موٹا ہونا۔

○ داغ جمع داغات: (ڈھور ڈنگر وغیرہ پر لگایا ہوا) داغ، نشان

دال: ۱۔ دَأَلَ۔ دَأْلاً و دَأَلاً و دَأَلَی: سست چال سے چلنا۔ دَاءَلَ مُدَاءَلَةً ہُ: سے تیز رفتاری میں مقابلہ کرنا۔

۲۔ دَأَلَ۔ دَأْلاً و دَأَلاناً ہُ: کو دھوکا دینا دَاءَلَ مُدَاءَلَةً ہُ: کو دھوکا دینا۔ الدَّأَل و الدُّئِل و الدُّؤَل و الدَّألان (ح): گیدڑ، بھیڑیا، نیولے سے مشابہ ایک جانور۔ الدُّؤَالة: لومڑی کا عَلَم جنس، اسم معرفہ۔

۳۔ الدُّؤْلُول جمع دَآلِیل: مصیبت کہا جاتا ہے: وقع القومُ فی دُؤْلُول: قوم ایک مصیبت و پریشانی میں پڑ گئی۔

○ دال: حرف د کا نام۔

○ دالیا: دالیا (بڑے شوخ رنگ کے پھولوں کا پودا)

دأم: دَأَمَ۔ دَأْماً الحائطَ: دیوار کو سہارا دینا۔ الرجلَ: پر کود کر سوار ہو جانا۔ تَدَأَّمَهُ الماءُ: کو پانی کا ڈھانپ لینا۔ تَدَاءَمَتْ علیه الهمومُ او لامورُ: پر غموں یا کاموں کا ہجوم کرنا۔ الدَّأْمُ: ہر ڈھانپنے والی چیز۔ الدَّأْمَاء: سمندر۔

○ دَامَا۔ مہرہ بازی، ڈرافس۔ لوحة الداماء۔ شطرنج کی بساط۔

○ دامجانة: دیکھئے دمجانة

○ دانتیلا: جھالر، کلابتون۔

دَانَق: دانَق و دانِق جمع دَوَانِق: ایک قدیم سکہ (۱/۴ درہم) چھوٹا سکہ۔ ایک پیمانہ۔

○ دانمارك: دَنمارك (Denmark) (ملک کا نام) دَانْمارِکی ڈنمارک کا باشندہ، ڈنمارک کی زبان

○ الدانوب: دریائے ڈنیوب (The Danube)

دای: دَأَیَ۔ دَأْواً و دَأْیاً الذئبُ للصید: بھیڑیے کا شکار کو دھوکا دینا، فریب میں لانا۔ الدَّأی جمع دَأَیات: سینے کی پسلیوں کی ملنے کی جگہ۔ ابن دَأْیَةَ (ح): کوا۔ الدَّایَة جمع دایات: دائی (فارسی لفظ)۔

دبّ: ۱۔ دَبَّ۔ دَبّاً و دَبِیباً السقم فی الجسم او البلی فی الثوب: بیماری کا جسم میں اور بوسیدگی کا کپڑے میں سرایت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ دَبَّتْ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عـفـار بـُـہُ اس کی چغلخوریاں اور ریشہ دوانیاں چل پڑیں۔ ــ الجَدْوَلُ نہر کا بہنا۔ اَدَبَّ اِلی اَرْضِہِ جَدْوَلاً: اپنی زمین کی طرف نہر بہانا۔ اَدَبَّ البلادَ: اس نے ملک کو انصاف سے بھر دیا۔ ھو یُدِبُّ علینا عـقـارِبَہُ و یحرّشُ علینا اَقارِبَہُ: وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو ہمارے خلاف بھڑکاتا ہے۔ الـمَدَبّ جاری ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ مَدَبُّ السَیل و مَدَبُّ النمل سیلاب کے بہنے کی جگہ، چیونٹیوں کے رینگنے کی جگہ۔ الدَبوُب و الدَیبُوب: چغل خور

۲۔ دَبَّ دَبّاً و دَبِیْباً سانپ کی طرح رینگنا یا ہاتھوں پاؤں پر بچہ کی طرح گھسنا کہتے ہیں۔ هو اکـذب مَـن دَبَّ و درج: وہ زندوں اور مردوں سے زیادہ جھوٹا ہے۔ اَدَبَّ الـصـبـی: بچہ کو ہاتھوں پیروں پر چلانا۔ الـدُبّ جـمـع ادبـاب و دِبَبَة مؤنث دُبَّةَ (ح) ریچھ۔ کہا جاتا ہے: رکـب دُبَّ فلان او دبّةَ فـلان: اس نے فلاں شخص کا طریقہ اختیار کیا۔ الـدُبّیَ: (کہا جاتا ہے): لیـس فـی الدار دُبّیَ اودِبّـیَ: گھر میں کوئی نہیں۔ یہ صرف نفی میں کہا جاتا ہے۔) اللَبَب (ح) گائے کا تازہ جنا ہوا بچہ۔ الدَبیب (مص) ہر رینگنے والا۔ الـدَابَةَ: الـداب کا مؤنث مذکر و مؤنث ہے، اس میں ۃ وحدت کی ہے۔ جمع دَوَابّ تـصـیغر الدُوَیبَّة (ح): ہر رینگنے والا جانور (اغلب استعمال میں) ہر سواری اور بار برداری کا جانور۔ ارضٌ مَدَبَّةٌ وہ علاقہ جہاں ریچھ بکثرت ہوں۔ الدَبُوب و الدَیبُوب: ہر موٹی چیز۔ کہا جاتا ہے: ناقة دَبُوبٌ: گوشت کی فراوانی کی وجہ سے چل نہ سکنے لیکن رینگنے والی اونٹنی۔ الـدبّـاب مؤنث دَبَّابَة: تیز رینگنے والا، کمزور جو چلنے میں رینگے۔ الـدَبَّابَة جـمع دَبّابات (اع) قلعہ کے محاصرہ میں استعمال ہونے والی ایک کل کچھ آدمی کل کے اندر گھس جاتے اور قلعہ کی فصیل کے پاس لیجا کر کھڑی کرنے پر فصیل میں سوراخ کر دیتے تھے، ٹینک، بکتر بند گاڑی۔

۳۔ الـدُبُّ الأَکبر و الدُبُّ الأَصْغر: بنات النعش۔ الکُبْرَیٰ اور بـنـات الـنـعش الصُغریٰ: یا دُبّ اکـبـر و دُبّ اصـغـر: (قطب شمالی کے قریب ستاروں کے جھرمٹ جو چھوٹے بڑے ریچھ کہلاتے ہیں۔) الـدّبّـة جـمع دِبَاب: تیل وغیرہ کا برتن، ذ۔ بط کی شکل کی شیشہ کی بوتل، بہت ریتلی جگہ۔ جمع دُبّ: چہرے کا رواں۔ الـدَبَب: رواں، بالوں کی کثرت۔ الدبیب (ح) چھوٹا کیڑا جو پانی میں کھیلتا رہتا ہے۔ الـدَبُوب والـدَیبُوب: گہرا غار۔ الـدَبَّـاء واحد دَبّاءَة (ن) کدو۔ الـدّبّان: رواں، بالوں کی کثرت۔ الاَدَبّ مـؤنـث دَبّـاءَ: بہت بالوں والا (ح) بہت بالوں والا اونٹ۔

۴۔ دَبْدَبَ دَبْدَبَةً بچہ کا ہاتھوں پر چلنا (عام زبان میں)۔ الـحافرُ علی الارض: کھر یا ٹاپ کا زمین پر پڑ کر آواز دینا۔ الدَبْدَاب جمع دَبَادِیب: ڈھول۔

◌ دبَّ - دبًّا و دَبِیبًا: رینگنا، پیٹ کے بل چلنا (رینگنے والے جانور کا)، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا یا حرکت کرنا، ہاتھوں پاؤں پر چلنا، ــفی میں داخل ہونا، آنا ــفی نفسہ (احساس، شک کا) کسی کے دل میں چپ چاپ گھس آنا۔ فی پر پھیلنا، پھیل جانا، کو بھر دینا، میں سرایت کرنا، رچ بس جانا، پر چڑھائی کرنا، چڑھ دوڑنا، حملہ آور ہونا، چھا جانا، یلغار کرنا۔ ترقی کرنا۔ فـی: (حالت، خیال، احساس کا) کسی میں فوقیت حاصل کرنا، (احساسات کا) کسی میں مسلسل آتا رہنا، یا تیزی سے آنا۔ دبّ فیـه دبیبُ الـحیاة: طاقت حاصل کرنا، دبَّبَ ہ: کو تیز کرنا، کی نوک باریک بنانا، کو گاؤ دم بنانا۔ دُبّ جـمـع اَدْباب و دِبَبَة: ریچھ۔ دُبِیّ: خرس، ریچھ کی طرح کا۔ دبّـہ: ریت کا ٹیلہ، مٹی کا ڈھیر یا تودہ۔ دبیـب: رینگنا، پیٹ کے بل چلنا، سرایت کرنا، ریل پیل، ہجوم، امڈ آنا، امڈ کر آنا، بہہ آنا، (احساسات، زندگی طاقت وغیرہ کا) بہاؤ۔ رینگنے والا جانور۔ دبّـاب رینگنے والا، پیٹ کے بل چلنے والا، زمین پر پھیلنے والا۔ دبّابَة جـمـع دبّابات: ٹینک، بکتر بند گاڑی۔ مَـدَبّ: مـن مـدب الـنیـلِ اِلی مصبّہ: نیل سے اس کے دہانہ تک۔ دَابّة جمع دَوَابّ: جانور، چوپایہ، حیوان، وحشی انسان، سواری کا جانور، (گھوڑا، خچر، گدھا) دُوَیْبَة: چھوٹا یا ننھا جانور بہت ہی چھوٹا حیوان، کیڑا مکوڑا، کرم، حشرہ۔ مُـدَبَّب نوکدار، نوکیلا، تیز، چبھتی ہوئی نوک کا، مخروطی، گاؤدم۔

دبـا: دَبَاَ ـدَبْأَہُ: کو لاٹھی سے مارنا۔ الشیءُ بہا کن ہونا۔ دَبَّأَہُ و علیہ: کو ڈھانپنا، چھپانا.

دبج: ۱۔ دَبَجَ ـدَبْـجاً و دَبَّجَ ہُ: کو منقوش کرنا، مزین کرنا، خوبصورت بنانا، ـــ الـطَیْلَسَانَ: کو ریشمی کپڑا لگا کر زینت دینا، آراستہ کرنا، الـدِیْبَاج جـمع دَبَـابِج و دَبَـابِیـج واحد دِیباجَة: ریشم کے تانے بانے والا کپڑا۔ (فارسی لفظ) الـدبّـاج دیباج کپڑا بیچنے والا۔ المُدَبَّج ریشمی کپڑے سے مزین کیا ہوا۔

۲۔ الـدِیـبـاجَة: چہرہ۔ کہا جاتا ہے: فـلانٌ یـصـون دیباجتَہُ او یبذل دِیْبَاجَتَہُ فلاں شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ دیباجہ کی حفاظت عزت سے کنایہ ہے ورد دیباجہ کو ترک کرنا دناءت سے کنایہ ہے۔ یعنی فلاں شخص اپنی آبروریزی کرتا ہے۔ دِیبَاجَةُ الکتاب: کتاب کا دیباچہ۔ الـوجـہِ چہرے کی جلد کا حسن (فارسی لفظ) الـدِیْبَـاجتَـان: ہر دو رخسارے۔ المُدَبَّج: بدشکل و بدفطرت۔ (ح) ایک بد ہیئت آبی پرندہ۔

◌ دَبَّجَ ہ: کو آراستہ کرنا، سجانا کی تزئین کرنا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا، کی زیبائش کرنا، کو خوبصورت و خوشنما بنانا، کو تحریر میں لانا، کا ایک تحریری نوٹ یا ریکارڈ مرتب کرنا، کو اچھے اسلوب سے، پیش کرنا، وضع کرنا، ترکیب دینا، سنوارنا، دِیْبَاج جمع دَبَابیج: زربفت، کمخواب، دِیْبَاجة: زربفت، کمخواب، دیبا، نظم کے تمہیدی یا ابتدائی حصے یا سطریں، تمہید، مقدمہ، چہرہ، حسن اسلوب، شہرت مسلمہ حیثیت، وقار، تَـدْبِیـج: سجاوٹ، تزئین، آرائش، زیبائش، زینت، لکھنا، تحریر، انشاء مقالہ، مضمون، کتاب لکھنا، مُـدَبَّـجات تقریر کی زینتیں عمدہ صنائع۔

دبـح: دَبَّح: سر جھکانا، پیٹھ پھیلانا، ذلیل ہونا۔ فی بیتہ: اپنے گھر میں جمے رہنا، پڑے رہنا

دبخ: دَبَّخ: بمعنی دَبَّحَ

◌ دَبْدَب: چلنا، قدم رکھنا، تھپ تھپانا، دَبْدَبَة قدموں کی آواز، چاپ، آہٹ، چھت پر بارش کی ہلکی ٹپ ٹپ کی آواز، کھٹ کھٹ، کھڑکھڑانے پٹ پٹ کرنے کی آواز، دروازہ بند کرنے کی آواز، پھڑپھڑانے کی آواز، پر جھاڑنے کی آواز۔ دَبْلُوبة جمع دَبَالِیب: نوک، سرا مخروطی سرا۔

دبر: دَبَرَ ـدَبْرًا و دُبُوراً النهارُ او الصیفُ: دن یا گرمی کا ختم ہونا۔ الـرجـلُ مرنا، پیچھے پھرنا، بوڑھا ہونا۔ دَبْرًا الکتابَ: کتاب کو نقل کرانا۔ بالشیء: کو لے جانا۔ الـحدیث عَن فلان: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات نقل کرنا یا بیان کرنا۔ دَبَّرَ الـحدیثَ: غیر سے بات نقل کرنا۔ دَابَرَ مُدَابَرَةً و دِباراً: مرنا۔ اَدْبَرَ فلانٌ: مرنا۔ عـنـہ: سے پیچھے پھرنا۔ اَدْبَرَتِ الدنیا: اقبال مندی کا ختم ہونا۔ اَدْبَرَ الامرُ: معاملہ ختم ہونا۔ اِسْتَـدْبَرَہُ: کو پیٹھ دینا۔ الـدَبْر (مص): موت۔ الدِبْر: موت۔ دُبُرُ الصَلاة نماز کا آخر۔ الدَابِر (فا): گذرا ہوا جیسے کہتے ہیں۔ امس الدابر: گذشتہ کل یہ تاکید کے طور پر ہے۔ جس طرح کہتے ہیں: رایتُہُ بعینی میں نے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ الدَابِرَة ج دَوَابِر: دابر کا مؤنث، شکست۔ الدَبْرَة:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لڑائی میں شکست۔ یہ ادبار کا اسم ہے۔ الدَبَار: ہلاکت۔ الدِبار شکستیں، جنگیں۔ الدَبرِیّ آخری وقت میں نماز۔ الدَبَری ایسے وقت میں آنے والی چیز جب اس کی ضرورت نہ رہے۔ کہا جاتا ہے۔ شَرُّ الرأيِ الدَبَرِیُّ: بری رائے وہ ہے جو بعد از وقت سوجھے۔ جَاءَ دَبَرِیًّا وہ آخر میں آیا۔

۲۔ دَبَرَ دُبُرًا ہُ کے پیچھے کے بعد آنا۔ السهمُ الهدفَ: تیر کا نشانہ سے ہٹ کر گرنا۔ تیر کا نشانہ سے آگے چلا جانا اور اس کے پیچھے گرنا۔ اَدْبَرَہُ کو اپنے پیچھے کرنا۔ اِسْتَدْبَرَہُ: کا پیچھا کرنا، کھوج لگانا۔ الدُبْرُ جمع اَدْبار من کل شیء: ہر چیز کا پچھلا حصہ۔ الدُبُر جمع ادبار من کل شیء ہر چیز کا پچھلا حصہ۔ ولأدُبار آخر۔ کہا جاتا ہے: جَاءَ دُبُرَ الشهر و فی دُبُرہ و علی دُبُرِہ و اَدْبارَ الشهر و فی اَدْبارِہ وہ مہینہ کے آخر میں آیا۔ دُبُرُ البیت: مکان کا کونہ، پچھلا حصہ۔ الدَبْر کسی چیز کے پیچھے۔ آپ کہتے ہیں۔ جعل کلامی دَبْرَ اُذُنَیهِ اس نے میری بات سے غفلت برتی اور اس پر توجہ نہیں دی۔ الدَابِرُ: تابع، ہر چیز کا آخر، جوئے میں ناکامیاب تیر، آخری تیر۔ کہا جاتا ہے۔ مابقي فی الکنانة غیر الدابر: ترکش میں سوائے آخری تیر کے کچھ نہیں بچا۔ الدَابِرَۃ انسان کی کونچیں، کھر کا پہلا حصہ۔ دَابِرَۃُ الطیر: پرندے کے پاؤں کا پچھلا خار۔ الدِبْرُ بمقابلہ قبلہ کہا جاتا ہے: لیس لهذا الامر قِبْلَةٌ ولا دِبْرَةٌ: اس کی وجہ کا پتہ نہیں لگتا۔ الدَّبِیر من الرجل: کے پیچھے کہا جاتا ہے۔ هو لا یعرف قبیلَه من دَبِیرِہ وہ آگے پیچھے کی تمیز نہیں رکھتا۔ یعنی پکا جاہل ہے۔ الدَّبَران (فلك) چاند کی ایک منزل جو برج ثور کے پانچ ستاروں پر مشتمل ہے۔ المُدَابِر ناکامیاب تیر کا مالک۔

۳۔ دَبَرَ دَبْرًا و دُبُورًا ت الریحُ ہوا پچھوائی رخ پر چلنا۔ دُبِرَ: کو پچھوائی ہوا لگنا۔ اَدْبَرَ فلانٌ: پچھوائی ہوا میں داخل ہونا۔ الدَبُور پچھوائی ہوا۔ اس کے مقابل صبا ہے جو پوربی ہوا ہے۔

۴۔ دَبِرَ دَبَرًا البعیرُ اونٹ کی پیٹھ میں کجاوہ کی وجہ سے زخم ہونا۔ صفت: دَبِر۔ ہُ القتبُ: کی پیٹھ کو کجاوہ کا زخمی کر دینا۔ البعیرُ بمعنی: دَبِرَ البعیرُ۔ الدَبِر: زخمی پیٹھ والا جانور، پیٹھ لگا جانور۔ الدَبَرۃ جمع دَبَر و اَدْبار جانور کا زخم جو کجاوے وغیرہ سے لگے۔

۵۔ دَبَّرَ الامرَ: کسی معاملہ پر سوچ بچار کرنا، اس کے نتیجے پر غور کرنا، اس پر توجہ کرنا اور اس کا انتظام کرنا۔ علی هلاکه: کی ہلاکت کے لئے حیلہ سازی اور کوشش کرنا۔ تَدَبَّرَ الامرَ معاملہ کے نتائج پر غور و فکر کرنا۔ اِسْتَدْبَرَ الامرَ: کا خلاف امید نتیجہ برآمد ہونا۔ الدَبْرَۃ جمع دِبار: نتیجہ۔ عاقبت۔

۲۔ دَابَرَ مُدَابَرَۃً و دِبارًا ہُ سے دشمنی کرنا۔ تَدَابَرَ القومُ: آپس میں دشمنی رکھنا، اختلاف رکھنا اور ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لینا۔

۷۔ الدَبْر واحد دَبْرَۃ جمع اَدْبُر و دُبُور شہد کی مکھیوں یا بھڑوں کا انبوہ، بہت مال، پہاڑ، سمندر میں جزیرہ نما قطعہ زمین جس پر جوار بھاٹا ہوتا ہو۔ الدِبْر بہت مال یہ مفرد و جمع کے لئے یکساں مستعمل ہے۔ مثلاً کہتے ہیں۔ مالٌ دِبرٌ و اموالٌ دِبرٌ: ایک بہت مال یا کئی بہت مال۔ الدَابِر اصل۔ کہتے ہیں۔ قطع اللّٰهُ دَابِرَهم اللہ تعالیٰ ان کی بیخ کنی کرے۔ الدَابِرۃ جمع دَوَابِر: نحوست۔ الدَبْرَۃ جمع دِبار: قابل کاشت قطعہ اراضی۔ الدِبَار کھیتوں کی نالیاں۔ الدَبِیر: گناہ، کہا جاتا ہے: عرف قبیله من دبیره: اس نے طاعت اور معصیت میں تمیز کر لی۔ الدَبُّور جمع دَبَابِیر (ح): بھڑ، خارجی مظہر، شکل۔ المُدَابَر: مقابل شریف والدین والا، نجیب الطرفین۔ المَدْبُور: زخمی۔ بہت مال والا۔ الدَّبُّورَۃ: پتھر تراشتے وقت ان کو برابر کرنے والا آلہ۔ فصیح لفظ: "الصاقُور" ہے۔

○ دَبَرَ دُبُورًا پیٹھ موڑنا، (وقت کا) گزرنا۔ دَبَّرَہ کے انتظامات کرنا، کے لئے منصوبے بنانا، کوئی چیز تیار کرنا، کا پیشگی بندوبست کرنا، کو منظم کرنا، کی تنظیم کرنا، کا خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن تیار کرنا، کا نقشہ بنانا، کو بنانا، تشکیل کرنا، وضع کرنا کی تدبیر کرنا، کو ایجاد کرنا، کی اختراع کرنا، میں ہم آہنگی پیدا کرنا، کو ترتیب دینا، کا انتظام کرنا، بندوبست کرنا، اہتمام کرنا، (جھگڑا) چکانا، فیصل کرنا (اختلافات) ختم کرنا، کو ٹھیک ٹھیک کرنا، کا باعث بننا، (منصوبہ وغیرہ) پکانا، (چال) کی ترکیب ڈھونڈنا، کی تدبیر نکالنا یا کرنا، کا جتن کرنا، کو آہستہ آہستہ بنانا، کا نظم و نسق کرنا، کو چلانا، ضبط میں رکھنا، (کوئی طرز عمل) اختیار کرنا، کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، کو کرنا یا کر سکنا، کو ہوشیاری سے بنانا یا کا ہوشیاری سے بندوبست کرنا، کو خاص سمت) چلانا، کو صف بستہ کرنا، کی صف آرائی کرنا، کو نظام کے تحت لانا، باقاعدہ بنانا کا، نگران ہونا، میں کفایت سے کام لینا، کو اچھی طرح سرانجام دینا، دَبَّرَ خِطَّةً منصوبہ تخلیق کرنا یا اختراع کرنا ... کا ... چلانا

کی نگرانی کرنا۔ اَدْبَرَ عن / علی: کی طرف پیٹھ کرنا، موڑنا، ــــ: فرار ہو جانا، بھاگ جانا، بچ جانا، ادھر ادھر ہٹنا، چپکے سے نکل جانا، کھسک جانا، تَدَبَّرَ: تیار ہونا، منصوبہ بننا، منظم ہونا، بندوبست ہونا۔ ہ / فی: پر غور و فکر کرنا، کے بارے میں گہری سوچ میں ہونا، دھیان میں ہونا، کو غور سے دیکھنا، کی اہمیت یا قدر و قیمت کا اندازہ کرنا، (بات) تولنا، پر غور کرنا، کو سوچنا۔ ــــ فی: کو احتیاط سے ہاتھوں میں لینا یا سے احتیاط کے ساتھ نبٹنا۔ تَدَابَرَ مقابل اطراف میں منہ پھیرنا، پشت سے پشت ملا کر کھڑا ہونا، مخالف ہونا، متضاد ہونا، مقابل ہونا، بالمقابل ہونا، الٹ یا الٹا ہونا، بے میل، بے جوڑ، الٹ، یا متضاد ہونا۔ اِسْتَدْبَرَہ کی طرف پیٹھ کرنا، موڑنا۔ دُبْر و دُبُر جمع اَدْبار: پڑا، پٹھا، سرین، چوتڑ، پچھلا حصہ، چت، پیچھا، عقب، آخری حصہ، آخر، دم، پونچھ، دنبالہ، مِن دبر: پیچھے، عقب میں، پشت پر، پیچھے سے، عقب سے، وَلَّی دُبُرَہُ پیٹھ موڑنا، بھاگ جانا، راہ فرار اختیار کرنا، دَبَرِی: پیچھے پیچھے گھسٹتا ہوا، بعد از وقت، دیر سے پہنچنے والا، دَبْرَہ (تقدیر کا) پلٹا۔ دَبُور پچھوا۔ دَبُّور جمع دَبَابِیرُ بھڑ، تَدْبِیر جمع تدبیرات: منصوبہ سازی، تنظیم، ہدایت، انتظام، بندوبست، دیکھ بھال، ٹھکانے لگانا، قاعدہ، باقاعدہ بنانا، بچت، کفایت، کفایت سے کام لینا، (جمع تدابیر): قدم، اقدام، کارروائی، حرکت، چال۔ تدبیر المَنزِل و تدبیرٌ مَنزِلیّ: گھر کا انتظام، گھر بار کا بندوبست۔ قَامَ بالتدابیر اللازمة و اِتَّخَذَ التدابیر اللازمة: ضروری اقدامات کرنا، اِدْبار پسپائی، فرار۔ تَدَبُّر فی: پر غور و فکر، کے متعلق سوچ بچار، غور یا تأمل، تَدَابُر تفاوت، فرق، نمایاں فرق، موازنہ، محاکمہ، عدم مشابہت، دَابِر: گذرا ہوا (وقت)، آخری، انتہائی یا دور ترین حد، انتہاء، جڑ، اصل، سرا، کنارا، قَطَعَ دَابِرَ الشیء: کو جڑ سے اکھیڑنا، کا استیصال کرنا، کا قلع قمع کرنا، کو یکسر کچل دینا، بالکل دبا دینا۔ بالامس الدابر: گذشتہ روز، گذشتہ کل، ذهب کَأَمْسِ الدَابِرِ: ہوا میں تحلیل ہو جانا، کوئی آثار چھوڑے بغیر غائب ہو جانا، (فی الواقع گذشتہ کل کی طرح)۔ مُدَبِّر: منیجر، ڈائریکٹر، حاکم، مرتب، رہنما، سرگردہ، سرغنہ۔ مُدَبِّرُ المکائد: منصوبہ باز، سازشی، مُدْبِر: مُدْبِرًا و مُقْبِلًا: پیچھے سے اور آگے سے۔ دُبارَۃ (دُوبَارَہ) بنڈل وغیرہ باندھنے کی ڈوری، رسی، ستلی، طناب، دھاگا۔

دبس ۱۔ دَبَّسَ الشیءَ کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ الشي

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چیز کا چھپنا، پوشیدہ ہونا۔

۲۔ دَبَّسَ العِنَبُ: انگور کا بہت میٹھا ہونا۔ العصیرُ المغلیّ: جوش کھا کر رس کا گاڑھا ہونا۔ الرجلُ العصیرَ: رس پکا کر گاڑھا کرنا۔ اَدْبَسَتِ الارضُ: زمین کا سبزہ پھوٹنا۔ اِدْبَسَّ اِدْبِسَاسًا الفرسُ: گھوڑے کا سرخی مائل بھورے رنگ والا ہونا۔ صفت: اَدْبَس۔ الدُّبْس: ہر سیاہ شے۔ الـدِّبْــس: پکایا ہوا گاڑھا شیرہ۔ الدِّبس: کھجور وغیرہ کا شیرہ، شہد۔ الدُّبْسَة: سرخی مائل بھورا رنگ۔ الدَّبَّاس: شیرہ بنانے والا، شیرہ فروش۔

۳۔ الـدَّبْـس: بہت تعداد لوگوں وغیرہ کی۔ کہا جاتا ہے: مالٌ دَبْسٌ: بہت مال۔ الدَّبُّوس جمع دَبَابِیس: گرز (فارسی لفظ)۔ الدَّبُّوس جمع دَبَابِیس: گرز: پن، سیفٹی پن۔

○ دِبْــس: سیرپ (Sicup) راب، شیرہ (خصوصاً انگوروں کا) دَبُّوسٌ انگلیسی: سیفٹی پن۔

دبش: ا۔ دَبَشَ دَبْشًا الشیءَ: کا چھلکا اتارنا۔ الطعامَ: کھانا کھانا۔ کہا جاتا ہے دُبِشَتِ الارضُ دَبْشًا: زمین کا تمام سبزہ چر لیا گیا۔ سیلٌ دُبَاش: تباہ کن سیلاب۔ مکانٌ مَدْبُوش: وہ جگہ جس کی سبزی ٹڈیاں چٹ کر گئی ہوں۔

۲۔ الـدَّبَش (واحد دَبَشَة): پتھریاں اور ان کے ریزے (عام زبان میں) الـدَّبَـش: گھر کا سامان، ردی سامان۔ الـدَّبَشَة: دشوار گزار جنگل (عام زبان میں)۔

○ دَبَش: ناکارہ سامان، ملبا، کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک، آخور، نکمی یا ردی چیز، الابلا۔ دَبَــش: روڑے کنکر، ٹوٹے ہوئے اینٹ پتھر۔

دبغ: دَبَغَ دَبْغًا و دِبَاغًا و دِبَاغَةً الجلدَ: چمڑے کو رنگ کرنا، نرم کرنا اور اس کی رطوبت اور عفونت دور کرنا۔ اِنْدَبَغَ: چمڑے کا نرم اور رطوبت اور عفونت سے پاک ہونا رنگا ہونا۔ الـدِّبْـغ و الـدِّبْـغَة و الـدِّبَـاغ و الدِّبَاغة: چمڑہ رنگنے کا مسالہ۔ جلدٌ دَبِیغ: رنگا ہوا چمڑا۔ الدِّبَاغَة: چمڑہ رنگنے کا پیشہ۔ الـدَّبَّاغ: چمڑے رنگنے والا۔ الـمَدْبَغَة و المَدْبُغَة: چمڑے رنگنے کی جگہ، رنگ میں پڑے ہوئے چمڑے۔

○ دَبَغَ دَبْغًا ہ: چمڑہ کمانا، کھال پکانا، چمڑے کی دباغت کرنا۔ دِبَاغَة: فن دباغت، چمڑا کمانا۔ دَبَّاغ: چمڑا کمانے والا۔ مَدْبَغَة جمع مَدَابِغ: چمڑے کی دباغت کا کارخانہ۔

دبق: دَبَقَ دَبْقًا الصائدُ الطیرَ: لاسہ سے پرندہ کا شکار کرنا۔ دَبِقَ دَبَقًا بہ: سے چمٹا رہنا۔ دَبَّقَ ہُ: کو لاسہ سے شکار کرنا۔ اَدْبَقَ ہُ: کو چپکانا، چمٹانا۔ تَدَبَّقَ الطیرُ: پرندہ کا لاسہ سے شکار ہونا۔ الشیءُ: لیس دار ہونا۔ الـدِّبْـق و الـدَّابُوق و الدَّبُوقَاء: پرندہ کو شکار کرنے کا لاسا۔ الدِّبْق (ن): لائم درخت جس کا پھل پرندوں کا لاسا بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

○ دَبِقَ۔ دَبَقًا ب: سے چپکنا چپاں ہونا، سے لگا، لپٹا رہنا، سے چمٹنا، چمٹ جانا۔ دَبَّقَ ہ: پرندہ کو لاسا سے پکڑنا۔ دِبْق: لاسا۔ دَبِق: چپچپا، چپکنے والا لیس دار، لاسا لگا ہوا۔

دبك: دَبَكَ دَبْكًا: زور سے زمین پر پاؤں مارنا جس سے کرخت آواز پیدا ہوتی ہے۔ (عام زبان میں) ہ علی الارض: کو زور سے زمین پر پٹخنا، پچھاڑنا۔ الوعاءَ: برتن کو پورا پورا بھرنا۔ دَبَّكَ تدبیكًا: زمین پر زور سے پاؤں وغیرہ مارنا اور کرخت آواز نکالنا۔ الدَّبْكَة: مشہور رقص جس میں ناچنے والے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تال کے ساتھ گاتے ہیں۔

○ دَبْكہ: اجتماعی رقص (گانے کے ساتھ)

دبل: ا۔ دَبَلَ دَبْلًا و دُبُولًا الشیءَ: کی اصلاح و درستی کرنا۔ الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ الدَّبْل جمع دُبُول: پانی کی نہر۔ الدِّبَال: کھاد۔

۲۔ دَبَلَ دَبْلًا ت فلانًا الدَّبُولُ: اس پر آفتیں ٹوٹ پڑیں۔ دَبَلَتْهُ الدبولُ: اس کی ماں نے اسے گم کر دیا۔ الدَّبْل جمع دُبُول: طاعون، مصیبت، اولاد کی موت۔ الدَّبْلَة و الدُّبَیْلَة: مصیبت۔ الدَّبُول: ہلاکت و مصیبت، وہ عورت جس کی اولاد مر گئی ہو۔

۳۔ دَبَلَ ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے لگاتار مارنا۔

۴۔ دَبَلَ دَبْلًا و دَبَّلَ اللقمةَ: بڑا لقمہ لینا۔ الشیءَ: کو انگلیوں سے اکٹھا کرنا جیسے لقمہ کیا جاتا ہے۔ الدُّبْلَة جمع دُبَل و دُبَل: بڑا لقمہ، ہر چیز کا ٹکڑا۔

۵۔ دَبِلَ دَبَلًا: موٹا ہونا، فربہ ہونا۔

۶۔ الـدُّبْـلَة جمع دُبَل و دُبَل: کلہاڑی کا سوراخ۔ الدُّبْلَة و الدُّبَیْلَة (طب): پیٹ کی بیماری یا پیٹ کا پھوڑا یا گلٹی۔ الدَّوْبَل (ح): پست قد گدھا، نر سور۔

۷۔ الدِّبْلُومَاسِي: کسی حکومت کا سفیر، فن سفارت کا ماہر، سفارتی (یونانی لفظ) السلك الدبلوماسی: تمام غیر ملکی سفیر Diplomatic corps الدبلوماسیة: سفارت، فن سفارت میں مہارت، حکمت عملی، موقعہ شناسی۔

○ دِبْلَة جمع دِبَل: چھلا، انگوٹھی، انگشتری۔

○ دبلوم و دبلومة جمع دبلومات: ڈپلوما، سند فضلیت، سند، ڈگری۔

دبی: دُبِیَت الارضُ: چھوٹی ٹڈیوں کا زمین کے پودوں کو کھا جانا۔ صفت مَدْبِیَة و مَدْبُوَّة۔ اَدْبَتِ الارضُ: زمین پر چھوٹی ٹڈیوں کا بکثرت ہونا۔ الدَّبَی واحد دَبَاة (ح): چھوٹی ٹڈی، چیونٹی (اسم جنس)۔

دث: دَثَّ دَثًّا الصیادُ بہ: شکاری کا کسی چیز سے شکار کرنا، کسی چیز کو پھینکنا۔ ہ: کو پتھر مارنا، کو چوٹ مار کر تکلیف پہنچانا۔ ہٹانا۔ دَثَّتِ السماءُ: آسمان کا ہلکی بارش برسانا۔ الدَّثّ و الدَّثَّة و الدِّثَاث: ہلکی بارش۔ الدُّثَّة: ہلکا زکام۔ الدَّثُوث: ہٹ جانے والا۔

دثر: ا۔ دَثَرَ دُثُورًا الرسمُ: نشان کا محو ہونا، مٹنا۔ صفت داثِر جمع دَوَاثِر۔ تَدَاثَرَ اسمٌ: نشان مٹنا۔ اِنْدَثَرَ: محو ہونا، مٹنا۔

۲۔ دَثَرَ دُثُورًا السیفُ: تلوار پر زنگ چڑھ جانا، لگنا۔ الرجلُ: انسان پر بڑھاپے کے آثار کا آشکار ہونا۔ الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔ تَدَثَّرَ فرسَهُ: گھوڑے پر کود کر سوار ہونا۔ الدَّثْر: میل کچیل۔

۳۔ دَثَرَ دُثُورًا الشجرُ: درخت کا پتے لانا، درخت پہ پتے لگنا۔ دَثَّرَہُ: کو چادر سے ڈھانپنا۔ تَدَثَّرَ و اِدَّثَرَ بالثوب: کپڑا اوڑھنا، کپڑے میں لپٹنا۔ صفت: مُتَدَثِّر و مُدَّثِّر (اس کی اصل مُتَدَثِّر ہے۔ ت د میں مدغم ہوگئی ہے) الدِّثار: بدن سے ملے ہوئے کپڑے کے اوپر کا گرم کپڑا۔ وہ کپڑا جس کو سونے والا اوڑھ کر لیٹے۔

۴۔ دَثَّرَہُ: کو ہلاک کرنا۔ الداثِر: ہلاک ہونے والا۔

۵۔ اِدَّثَرَ: بہت مال جمع کرنا۔ الدَّثْر: بہت مال۔ کہا جاتا ہے مالٌ دَثْرٌ و مالان دَثْرٌ و اموالٌ دَثْرٌ یعنی دَثْر واحد، تثنیہ اور جمع سب کے لئے آتا ہے۔ کبھی جمع بھی لائی جاتی اور دُثُور کہا جاتا ہے۔ المِدْثَر: بہت۔ کہا جاتا ہے عسکرٌ دَثْرٌ: لشکر جرار۔ الدِّثْو: مال کا انتظام کرنے والا۔

۶۔ الدَّثُور و الدَّثَارِیّ: سست، کاہل، بہت سونے والا۔ الاَدْثَر: غافل۔

○ دَثَرَ دُثُورًا: بھلایا جانا، نگاہ تغافل کا شکار ہونا، بالکل بھولا ہوا ہونا، متروک ہو جانا، غیر مروجہ ہونا، وقیانوسی ہونا، بہت پرانی وضع کا ہونا، ناپید ہو جانا، مٹنا، مٹ جانا، کا نام و نشان نہ رہنا، حرف غلط کی طرح مٹنا (ہوا سے قدموں کے نشان، کھوج کا)۔ دَثَّرَ ہُ: کو ڈھانپنا، ڈھانکنا، لپیٹنا۔ ہ: کو تباہ و برباد کرنا، نیست و نابود کرنا۔ تَدَثَّرَ فی: میں لپٹنا، سے ڈھک جانا، کو اوڑھنا۔ اِنْدَثَرَ: کا نام و نشان مٹنا یا مٹ جانا۔ محو ہونا، ہوا ہونا، بھولا بسرا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونا، نگاہ تغافل کا شکار ہونا، متروک ہونا، غیر مروج ہونا، کارواج نہ رہنا۔ اِدَّثَرَ ب: میں لپٹنا، کواوڑھنا۔ دِثار: کمبل، چادر۔ مَدْثُور: گزرا ہوا، بہت پرانا، قدیم (زمانہ، وقت)۔

دج: ۱۔ دَجَّ۔ دَجِیجًا و دَجَجَانًا القومُ: آہستہ چلنا۔ الداجّ جمع داجُّون و داجَّة: الحاج کی طرح یہ بھی مفرد وجمع میں یکساں مستعمل ہے۔ اس کا اطلاق خادموں اور بوجھ اٹھانے والوں پر ہوتا ہے۔

۲۔ دَجَّ۔ دَجِیجًا و دَجَجَانًا البیتُ: گھر کی چھت کا ٹپکنا۔

۳۔ دَجَّ۔ دَجًّا السترَ: پردہ چھوڑنا، لٹکانا۔ دَجَّجَتِ السماءُ: آسمان کا ابر آلود ہونا، ۔ہٗ: کو ہتھیار بند کرنا۔ تَدَجَّجَ: مسلح ہونا، پورا ہتھیار بند ہونا۔ کہا جاتا ہے: ۔ فی شِکَتِه وہ اچھی طرح ہتھیار پوش ہوگیا۔ الدُجَّة: سخت تاریکی۔ الدُجُج: سخت تاریکی، سیاہ پہاڑ، کالے پہاڑ۔ المُدَجَّج و المُدَجِّج: پوری طرح مسلح، کامل ہتھیار پہنے ہوئے۔ (ح) سیہی، (اس کے پروں کی اسلحہ سے تشبیہ کی وجہ سے)۔ اَسْوَد دُجَاجِیٌّ: کالا سیاہ۔ الدَجُوجِي و الدَیْجُوج جمع دَیَاجِیج: تاریک رات۔

۴۔ الدجَاج: دال کی تثلیث کے ساتھ، البتہ دال کی فتح افضل ہے واحد دَجَاجة جمع دُجُج: مرغی (پالتو یا جنگلی) ۔۔۔ الهندی: ایک بڑا پرندہ جسے دجاج الحبش اور الدجاج الرومی بھی کہتے ہیں۔ الدَجَاجة: عیال، دھاگے کی پیچک یا اس کا گٹا۔ الدُجَاجي: مرغیاں بیچنے والا۔

۵۔ دَجْدَجَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔

○ دَجَّ دَجًّا و دَجِیجًا: آہستہ آہستہ چلنا۔ دَجَّجَهُ بالسلاح: کو پوری طرح مسلح کرنا۔ دُجّ: ترغد (ایک خوش الحان پرندہ) دُجَّة: سخت تاریکی، سخت اندھیرا۔ دَجَاج (اسم جنس) چوزے، پرندے، مرغی (مرغا یا مرغ) دَجَاجَة: مرغی، چوزہ۔ دَجَاجةُ الحبش: سرمئی مرغی۔ مُدَجَّجٌ بالسلاح: پوری طرح مسلح۔

دجر: دَجِرَ۔ دَجَرًا: حیران ہونا، مدہوش ہونا، صفت دَجِر و دَجْرَان جمع دَجْرَی و دُجَارَی۔ داجَرَ مُدَاجَرَةً: بھاگنا، فرار ہونا۔ الدِجْران واحد دِجْرَانَة: بیل چڑھانے کیلئے نصب شدہ لکڑی۔ الدَیْجور جمع دَیَاجِیر و دَیَاجِر: تاریکی، اندھیرا (ہم کہا کرتے ہیں: النور و الدیْجُور: روشنی اور تاریکی) خاکستری رنگ کی سیاہی مائل مٹی۔

○ دَجِرَ۔ دَجَرًا: پریشان ہونا، مشکل میں پڑنا، سمجھ میں نہ آنا کہ کیا کرے یا کہے، گومگو کی حالت میں ہونا۔ دَیْجُور جمع دَیَاجِیر: تاریکی، اندھیرا، دھندلکا، اندھیرا، رات۔ دَیْجُورِيّ: تاریک، اندھیرا۔

دجل: ۱۔ دَجَلَ۔ دَجْلاً: جھوٹ بولنا۔ ۔البعیرَ: اونٹ پر قطران لگانا۔ دَجَّلَ البعیرَ: اونٹ پر قطران لگانا۔ الاناءَ: برتن پر سونے کا پانی چڑھانا گلٹ کرنا۔ الشيءَ: کو ڈھانپنا۔ الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ الدَجَال: گوبر، کھاد۔ الدُجَیل و الدُجَالَة: قطران۔ دِجْلة: عراق کے دو بڑے دریاؤں میں سے ایک کا نام: لفظ کی بناء پر مونث، دریا ہونے کی وجہ سے مذکر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کبھی اس پر ال بھی داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: الدِجْلة اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سیلاب آنے پر زمین کو ڈھانپ لیتا تھا۔ الدَجَّال: سونے کا پانی۔ جمع دَجَّالُون و دَجَاجِلَة: بڑا جھوٹا، اسی سے ہے مسیح الدجّال: وہ بڑا جھوٹا شخص جو آخر زمانہ میں ظہور کرے گا۔ الدَجَّالَة: زمین پر چھانے والا ایک بڑا گروہ۔

۲۔ دَجَلَ۔ دَجْلاً و دَجَّلَ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا، ٹھہرنا، مقیم ہونا۔

○ دَجَلَ۔ علی: کو دھوکا دینا، فریب دینا، سے دغا بازی کرنا، کو جل دینا، ٹھگ لینا ۔۔۔: ٹھگ ہونا، دھوکے باز ہونا، عیار ہونا، فریبی ہونا، جھوٹا مدعی ہونا، لپاڈیا ہونا، ڈھونگیا ہونا، عطائی یا نیم حکیم ہونا۔ دَجَّلَ ہ: پر کوٹ کرنا، پلستر کرنا، لیپنا، پر ملنا، پر سونے کا پانی چڑھانا، سونا چڑھانا، پر ملمع کرنا، کو سنہرا رنگنا، ۔۔۔ علی: کو دھوکا دینا، فریب دینا، کو اُلو بنانا، ٹھگنا۔ دَجْل: عیاری، حیلہ گری۔ دروغ بافی، دھوکا، دغا، مکر، فریب، جھوٹ، فریب دے کر لوٹنا۔ دَجَّال جمع دَجَّالُون و دَجَاجِلَة: دھوکے باز، فریبی، جعلساز، ٹھگ، چالباز، پاکھنڈی، بہروپیا، عطائی، نیم حکیم، ڈھونگ، ڈینگیا، جھوٹا مدعی (مونث دَجَّالة): دجال، دشمنِ حضرت مسیح۔ تَدْجِیل: فریب، چھل، مکر، عیاری، دغابازی، حیلہ سازی، جھوٹ، ڈھونگیا پن، نیم حکیمی، عطائیت، عطائی پن، عطائی علاج۔

دجم: ۱۔ دَجَمَ۔ دَجْمًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الدُجَم: عشق کی تکالیف و بے چینیاں۔ کہا جاتا ہے ۔اخذته دُجَمُ العشق: اس کو عشق کی بیتابیوں نے گھیر لیا۔

۲۔ دَجِمَ۔ و دُجِمَ دَجْمًا: غمگین ہونا۔

۳۔ الدَجْمُ من الشيء: کسی شے کی قسم ۔ غدیرٌ دَیْجَم: ہوا، تالاب۔

marfat.com

دجن: ۱۔ دَجَنَ۔ دَجْنًا و دُجُونًا الیومُ: دن کا ابر اور بارش والا ہونا۔ اللیلُ رات کا تاریک ہونا صفت اَدْجَن مؤنث دَجْنَاء جمع دُجْن۔ اَدْجَنَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ۔ت السماءُ: آسمان کا مسلسل بارش برسانا۔ المطرُ والحُمَّی: بارش یا بخار کا جاری رہنا۔ القومُ: بارش میں داخل ہونا۔ اِدْجَوْجَنَ الیومُ: دن کا بارش والا ہونا۔ الدَجْن جمع دُجُن و دِجان و دُجُون و اَدْجان: چھا جانے والا سیاہ بادل، بہت بارش۔ کہا جاتا ہے: یومُ دَجْنٍ و یومٌ دَجْنٌ: بہت بارش والا دن اسی طرح: لیلة دَجْنٍ و لیلةٌ دَجْنٌ: بہت بارش والی رات۔ الأَدْجَن: تاریک۔ الدُجْنَة جمع دُجَن و دُجُنَات: تاریکی۔ ۔فی اَلْوَانِ الابل: اونٹوں کے رنگوں میں بہت بری سیاہی۔ الدُجُنَّة و الدَجِنَّة و الدِجِنَّة جمع دُجُنَّات: تاریکی، بارش برسانے والا سیاہ گھٹاٹوپ بادل۔ کہا جاتا ہے: یومُ دُجُنَّةٍ و یومٌ دُجُنَّةٌ: بہت بارش والا دن اسی طرح کہا جاتا ہے۔ لیلةُ دُجُنَّةٍ و لَیْلَةٌ دُجُنَّةٌ: تاریک رات۔ لیلةٌ مِدْجَان: تاریک رات۔ الدَاجِنَة و المُدْجِنَة من السحاب: بہت بارش برسانے والا بادل۔

۲۔ دَجَنَ۔ دُجُونًا بالمکَان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ الحَمَامُ وغیرُهُ: کبوتروں وغیرہ کا مانوس ہونا صفت: داجِن مؤنث داجِن و داجِنَة جمع دَوَاجِن کہا جاتا ہے: دَجَنوا فی لؤمِهِم: وہ کمینگی کے عادی ہیں کہ اسے نہیں چھوڑتے۔

۳۔ دَاجَنَ مُدَاجَنَةً ہٗ: سے مداہنت کرنا، کو دھوکا دینا۔

○ دَجَنَ۔ دَجْنًا و دُجُونًا: (دن کا) دھندلا ہونا، سیاہی مائل ہونا، تاریک ہونا، گھٹاٹوپ ہونا، تیز و تاریک ہونا۔ دُجُنًا: رہنا، ٹھہرنا، عادی ہونا، خوگر ہونا، پالتو ہوجانا، پالتو ہونا، مانوس ہونا، دَجَّنَ: سدھانا، مانوس کرنا، خوگر کرنا۔ ۔۔۔ ہ: جانور کو پالتو بنانا، مانوس کرنا، عادی کرنا۔ دَجَّنَهُ لِخِدْمةِ فلان: کو کے لئے کام کرنے والا بنانا، کو کی خدمت والا بنانا، داجَنَ ہ: کی چاپلوسی کرنا، کی خوشامد کرنا، کی خود پسندی کو تقویت دینا، کو پھلانا، جھانسا دینا، کو سبز باغ دکھانا، کی دلداری کرنا، کو پھلانا، کو دھوکا دینا، کے ساتھ میٹھی میٹھی باتوں سے مطلب براری کرنا، کو فریب دینا، ، بہکانا، ناز نخروں سے رجھانا، کو راضی کرنا، کو خوش خلقی سے جیتنے یا ترغیب دینے کی کوشش کرنا، اَدْجَنَ: (دن کا) تاریک ہونا، دُجْنَة و دُجُنَّة: تاریکی، اندھیرا، تیرگی، ظلمت، دھندلا پن۔ اَدْجَن: تاریک۔ داجِن: پالتو، گھر سے،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مانوس کیا ہوا، عادی بنایا ہوا (جانور) تاریک، اندھیرا، تیرہ، بے نور، حَیوانَاتٌ دَاجِنَۃ گھریلو جانور۔ دَوَاجِن مرغیاں، پالتو مرغ بطخیں وغیرہ۔

دجا: دَجَا ـ دَجْوًا و دُجُوًّا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا صفت: دَاجٍ مؤنث دَاجِیَۃ۔ جیسے لیلۃ دَاجِیَۃ: تاریک رات۔ دَاجَی مُدَاجَاۃً ہ: سے ظاہر داری برتنا اور اس سے دشمنی چھپانا، کو میانہ روی سے روکنا۔ اَدْجَی اِدْجَاءً و تَدَجَّی تَدَجِّیًا و اِدْجَوْجَی اِدْجِیجَاءً اللیلُ رات کا تاریک ہونا۔ — البیتَ: گھر پر پردہ لٹکانا۔ لیلٌ دَجِیٌّ: تاریک رات۔ الدُّجْیَۃ جمع دُجًی تاریکی یا بادل کے ساتھ تاریکی۔ شکاری کے چھپنے کی جگہ۔ المَدَاجِی اندھیرے، تاریکیاں۔

۲۔ دَجَا ـ دَجْوًا و دُجُوًّا الثوبُ: کپڑے کا کشادہ ہونا۔ الدُّجَۃ جمع دُجَات و دُجًی قمیض کا بٹن۔ الداجی من العیش: آسودگی۔ نعمۃٌ داجیۃ: بھرپور نعمت۔

○ دَجَا ـ تاریک ہونا۔ تیرہ ہونا، بے نور ہونا، دھندلا ہونا، سیاہی مائل ہونا۔ — ہ: کو ماند کر دینا، ڈھکنا، کو پردے میں چھپانا، پر پردہ ڈالنا، کو چھپا لینا، (معاملہ) کو دبا دینا، پر پھیل جانا۔ داجاہ سے منافقت کرنا، اپنے آپ کو کسی کا دوست ظاہر کرنا، کو خوش آمد سے دام میں لانا، کی خوش آمد کرنا۔ دُجًی تاریکی، دھندلا پن، دھندلکا، اندھیرا اجالا۔ دیاجی اللیل: رات کی تاریکی، رات کے اندھیرے۔ مُدَاجَاۃ: منافقت، خوشامد، چاپلوسی، تملق۔ داجٍ تاریک

دحّ: ۱۔ دَحَّ ـ دَحًّا الشیءَ فی الارض: کو زمین میں چھپانا، دبانا۔ الرجلَ کو گدی پکڑ کر دھکیلنا۔ البیتَ فی الثری: گھر کو کشادہ کرنا۔ الطعامُ بطنَہٗ کھانے کا پیٹ کو نیچے تک بھر دینا۔ اِنْدَحَّ اِنْدِحَاحًا بطنُہٗ: پیٹ کا فراخ ہونا۔

۲۔ الدَّحْدَح و الدَّحْدَحۃ و الدَّحداح و الدَّحْدَاحَۃ والدُّحادِح والدُّحَیْدِحَۃ پست قد، کوتاہ قد۔

○ تَدَحْدَحَ: جھومتے جھامتے چلنا۔ دَحْدَح و دَحْدَاح ناٹا اور موٹا، پست، چھوٹا اور موٹا، گٹھیلا۔

دحر: ۱۔ دَحَرَ ـ دَحْرًا و دُحُورًا و مَدْحَرَۃً ہ: کو ہکالنا، دھتکارنا، دور کرنا، ہٹانا۔ صفت: دَاحِر و دَحُور۔ صفت مفعولی: مَدْحُور۔

۲۔ دَحْرَجَ ہ کو لڑھکانا۔ تَدَحْرَجَ لڑھکنا۔ الدُّحْرُوج جمع دَحَارِیج: گبریلے کی بنائی ہوئی گولی۔ الدُّحَیْرِیجَۃ: گندم کا چھوٹا دانہ۔ (عام زبان میں)۔

○ دَحَرَ ـ دَحْرًا و دُحُورًا ہ: کو ہانکنا، ہانک کر لیجانا، لے جانا، کو دور کرنا، ہٹانا، نکال دینا۔ — ہ: (فوج) کو شکست دینا، اِنْدَحَرَ ہانکا جانا، ہانک کر لیجایا جانا، لے جایا جانا، شکست فاش دینا جانا، کی صفوں میں بھگدڑ ہونا، دھکیلا جانا، دور کیا جانا، پشت کے بل گرنا، (فوج کا) شکست کھانا، ناکام ہونا، تباہ ہونا، شکار ہونا، ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، گر پڑ ہونا۔ اِنْدِحَار: جلاوطنی، اخراج، دیس نکالا، استرداد، (جمع اندحارات) شکست (فوجی)، تباہی، بربادی، سقوط، زوال، ہار، کمر ٹوٹ جانا، ناکامی، آفت، آشوب، اندحار الکون: دنیا کا خاتمہ، مَدْحُور: شکست خوردہ، دھکیلا ہوا، دور کیا ہوا، دھتکارا ہوا، برادری سے نکالا ہوا، جلاوطن کیا ہوا۔

○ دَحْرَجَ ہ: کو لڑھکانا، تَدَحْرَجَ لڑھکنا۔

دحز: الدَّحْز بہت سخت۔

دحس: ۱۔ دَحَسَ ـ دَحْسًا بین القوم لوگوں میں فساد برپا کرنا۔ — بالشرّ ایسے طریقے سے برائی کرنا کہ دوسرا نہ جانتا ہو۔ الدَّحَّاس و الدَّحَّاس جمع دَحَّاسَات و دَحَاحِیس (ح): زمین کے اندر رہنے والا زرد کیڑا۔

۲۔ دَحَسَ ـ دَحْسًا الشیءَ: چیز کو بھرنا۔ و اَدْحَسَ السنبلُ بالی میں دانہ پڑنا۔ الدِّحَاس من البیوت اہل خانہ سے بھرا ہوا گھر۔ الدَّیْحَس بہت، کثیر (ہر چیز کا)۔

۳۔ دَحَسَ ـ دَحْسًا برجلِہٖ پاؤں سے کریدنا۔

۴۔ دَحَسَ ـ دَحْسًا الجزّارُ قصائی کا کھال اتارنے کے لئے ہاتھ کھال میں گھسانا۔ الثوبَ فی الوعاء: کپڑے کو برتن میں داخل کرنا۔

۵۔ دَحِسَ ـ دَحَسًا اصبعُہٗ: کی انگلی کا متورم ہونا، سوجنا۔ صفت: مَدْحُوس۔ مَدْحُوسَۃ: متورم انگلی۔ الدَّاحِس و الداحوس: انگلی کے سرے پر ورم، سوجن۔

○ دَاحِس جمع دَوَاحِس انگلی کی سوجن۔

○ دَحَشَ ـ دَحْشًا داخل کرنا، ڈالنا، ٹھونسنا، گھسانا، بھونکنا، دھکیلنا، ٹھیلنا، ناجائز مسلط کرنا، خفیہ طور پر یا ناجائز طور پر در آمد کرنا، اِنْدَحَشَ: ملانا، خلط ملط کرنا، مخل ہونا، مداخلت کرنا، خواہ مخواہ دخل دینا۔

دحص: دَحَصَ ـ دَحْصًا المذبوحُ برجلہٖ ذبح کئے جانے والے جانور کا پاؤں پٹکنا۔ — الرجلُ جلدی کرنا۔

دحض: ۱۔ دَحَضَ ـ دَحْضًا و دُحُوضًا الحجّۃُ دلیل کو باطل کرنا۔ ـتِ الحجّۃُ دلیل کا باطل ہونا۔ — ـتِ الشمسُ: سورج کا مغرب کی طرف ڈھل جانا۔ اَدْحَضَ الحجّۃَ دلیل کو باطل کرنا۔ اِنْدَحَضَ البرھانُ: دلیل کا باطل ہونا، غلط ثابت ہونا۔

۲۔ دَحَضَ ـ دَحْضًا: مذبوح کی طرح پاؤں پٹکنا۔ عن الامر: کی تفتیش کرنا۔

۳۔ دَحَضَ ـ دَحْضًا ت رجلُہٗ: کا پاؤں پھسلنا۔ المطرُ التلاعَ بارش کا زمین کو پھسلنی بنانا، پھسلنے والی بنانا۔ اَدْحَضَ الرجلَ پاؤں پھسلانا۔ الدَّحْض والدَّحَض جمع دِحَاض من الامکنۃ: پھسلنی جگہ۔ المَدْحَضَۃ: پھسلانے والی جگہ۔

○ دَحَضَ ـ دَحْضًا و دُحُوضًا: (دلیل وغیرہ کا) ضابطہ کے مطابق نہ ہونا باطل ہونا، بودا ہونا، کمزور ہونا، غیر مستحکم ہونا۔ — ہ (دلیل کو) غلط ثابت کرنا، کی تردید کرنا، کو کالعدم قرار دینا۔ دَحَّضَ و اَدْحَضَ ہ: دلیل کو غلط ثابت کرنا، دلیل کی تردید کرنا، دلیل کو کالعدم قرار دینا۔ دَحْض تغلیط، بطلان، تردید۔ دُحُوض: کالعدم ہونا، غیر معتبر ہونا، کمزوری، قابل تردید و تغلیط ہونا (دلیل یا دعویٰ کا)۔ دَعْوَی مِدْحَاض: ایک قانوناً بے ضابطہ اور بے جواز دعویٰ۔

دحق: ۱۔ دَحَقَ ـ دَحْقًا و اَدْحَقَ ہٗ: کو دور کرنا، دھتکارنا، ہکالنا۔ اِنْدَحَقَ: اپنی جگہ سے نکل پڑنا۔ الدِّحِیق: دور، دور کیا ہوا۔ دَحِیقُ القوم: قوم کا دھتکارا ہوا۔ مُنْدَحِقُ البطن: بڑے پیٹ والا۔ چوڑے پیٹ والا۔

۲۔ الداحِق احمق، غضبناک

دحل: ۱۔ دَحَلَ ـ دَحْلًا بھاگ کر چھپ جانا، دور ہونا، دَحِلَ ـ دَحَلًا ڈھیلے پیٹ والا ہونا، صفت: دَحِل۔ الدَّحِل: پست قد فربہ ڈھیلے پیٹ والا۔

۲۔ دَحَلَ ـ دَحْلًا البئرَ: کنوئیں کو ایک جانب میں کھودنا۔ و اَدْحَلَ فی الدَّحل: کھوہ میں داخل ہونا، گھسنا۔ الدُّحْل والدَّحْل جمع دِحال و اَدْحال و اَدْحُل و دُحُول و دُحْلان: اوپر سے تنگ نیچے سے کشادہ کھوہ۔ الدَّحْلَۃ: کنواں۔ البئرُ الدَّحُول و الدَّحْلاء اوپر سے تنگ اطراف سے پھیلا ہوا کنواں۔

۳۔ دَاحَلَ مُدَاحَلَۃ کو دھوکا دینا۔ الدَّحِل دھوکے باز۔ الدِّحَال: امتناع۔ الداحُول جمع دَوَاحِیل: ہرنوں کے شکار کے لئے نصب کی ہوئی لکڑی۔ — والدَّحَّال: لکڑی نصب کر کے شکار کرنے والا شکاری۔

دحم: ۱۔ دَحَمَ ـ دَحْمًا کو زور سے دھکیلنا، ہٹانا۔

۲۔ دَحْمَسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الدَّحْمَس

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

و الدُّحْمُس جمع دَحَامِس: ہرسیاہ شئے۔سخت سیاہ کہاجاتا ہے لیلٌ دُحْمُسٌ: بہت تاریک رات۔
الدُّحَامِس: بہت گندم گوں، موٹا، بہادر۔
۳۔دَحْمَلَ به: کو زمین پر لڑھکانا۔

دحا: ادَحَا ۔ دَحْوًا البطنُ: پیٹ کا بڑا ہوکر نیچے کی طرف لٹک جانا۔اللّٰهُ الارضَ: اللہ تعالیٰ کا زمین پھیلانا۔
اِدْحَوَى اِدْحِوَاءً: پھیلنا۔
۲۔دَحَا ۔ دَحْوًا الحجرَ بيده: ہاتھ سے پتھر پھینکنا۔کہا جاتا ہے:دحا المطرُ الحَصَى عن وجه الارض: بارش زمین پر سے پتھر بہالے گئی۔
دَحَا ۔ دُحُوًّا: پھیل جانا، چوڑا ہونا، ہموار ہونا، لپٹی ہوئی چیز کا کھلنا۔مِدْحَى جمع مَدَاحٍ: رولر، بیلن، سٹیم رولر سڑک کوٹنے کا انجن۔

دحی: دحی۔دَحْيًا الشيءَ: کو پھیلانا۔تَدَحَّى تَدَحِّيًا الشيءُ: پھیلنا۔اِنْدَحَى البطنُ: پیٹ کا کشادہ ہونا۔
الدَّحْيَة (ح): بندریا۔الدِحْيَة جمع دِحَاء: فوج کا سردار۔الأُدْحِي و الإِدْحِيّ و الأُدْحُوَّة و الأُدْحِيَّة: شترمرغ کے ریت میں دیئے ہوئے انڈے۔

دخ: ۱۔الدَّخّ و الدُّخّ: دھواں۔
۲۔دَخْدَخَ الرجلُ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیز چلنا۔عنه الشيءَ: سے کسی چیز کو روکنا۔تَدَخْدَخَ الرجلُ: دلگیر ہونا۔

دخر: دَخَرَ ۔ و دَخِرَ ۔ دَخْرًا و دُخُورًا: ذلیل ہونا، حقیر ہونا۔اَدْخَرَهُ: کو ذلیل کرنا۔

دخس: ۱۔دَخَسَ ۔ دَخْسًا الشيءَ في الرماد: چیز کو راکھ میں دبانا۔فيه: میں داخل ہونا۔الدَّخُسُ: موٹا، گٹھیلے بدن کا آدمی۔دِرْعٌ دِخَاسٌ: قریب قریب حلقوں والی زرہ۔الدَّخِيسُ: گھنی گھاس۔ کہا جاتا ہے هو دَخِيسُ اللحمِ: وہ پُر گوشت ہے۔كَلأٌ دِيْخَس: بہت گنجان اور گھنی گھاس۔
۲۔دَخِسَ ۔ دَخَسًا الحافِرُ: کھر کا سوجنا۔صفت: دَخِس۔الدَّخَس: جانور کے کھر کی سوجن۔
۳۔الدَّخُس (ح) جوان ریچھ۔الدُّخَس (ح) ڈالفن (Dolphin)، ایک سمندری جانور۔عددٌ دِخَاسٌ: بہت تعداد، کثیر تعداد۔الدَّخِيس: کثیر تعداد۔الدَّوَاخِس والدُّخَّس: دیگدان کے پائے۔

دخل: ۱۔دَخَلَ ۔ دُخُولاً و مَدْخَلاً الدارَ: گھر میں داخل ہونا۔به: کو داخل کرنا۔عليه: کی زیارت کرنا، سے ملاقات کرنا۔دَخَّلَ هُ: کو داخل کرنا۔دَاخَلَ مُدَاخَلَةً هُ العُجْبُ: میں خود پسندی پیدا ہوجانا۔هُ في امور: کے معاملات میں دخل اندازی کرنا۔

اَدْخَلَ اِدْخالاً و مُدْخَلاً هُ: کو داخل کرنا۔تَدَخَّلَ: داخل ہونا۔في الامور: معاملات میں خواہ مخواہ دخل دینا، مداخلت کرنا، مخل ہونا۔الشيءُ: کسی شئے کا تھوڑا تھوڑا داخل ہونا۔تَدَاخَلَ الشيءُ: ایک دوسرے میں داخل ہونا۔هُ: میں داخل ہونا۔تِ الامورُ: امور کا ملتبس و مشتبہ ہونا۔اِدَّخَلَ و اِنْدَخَلَ: داخل ہونا۔
الدَّخْل: آمدنی، بیماری۔الدَّخَل: کسی قوم کی طرف غلط نسبت کرنے والے۔الدِخْلَة: مختلف رنگوں کے امتزاج سے ایک رنگ تیار کرنا۔الدُّخَّل جمع دَخَاخِيل: درخت کی جڑ میں اگنے والی گھاس، لمبے چوڑے جسم گھٹے بدن والا۔(ح): ایک چھوٹا پرندہ جو درختوں اور کھجور کے بالائی حصوں کے مابین گھس جاتا ہے۔الدَّاخِل (فا): اندر آنے والا۔دَاخِلَةُ جمع دَوَاخِلُ الإزار: ازار کا بدن کو چھونے والا حصہ، اندرونی حصہ اس کی ضد خارِجَتُهُ ہے، یعنی بیرونی حصہ۔الدِخَال: ہڈی کے جوڑوں کا آپس میں داخل ہونا۔گھوڑے کی ایال۔الدَّخِيل جمع دُخَلاء: اپنے آپ کو غیر قوم کی طرف منسوب کرنے والا۔ہر عجمی کلمہ جو عربی زبان میں داخل کرلیا گیا ہو۔کہا جاتا ہے۔هو دِخِيلُ فلان: وہ شخص فلاں کے تمام معاملات میں دخل انداز ہے، مداخلت کرتا ہے۔المَدْخَل: داخل ہونا، داخل ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے هُوَ حَسَنُ المَدْخَلِ: وہ امور کو حسن انتظام سے چلاتا ہے۔دَخَّال الأُذَن: کئی ٹانگوں یا چھوٹی ٹانگوں والا سیاہ رنگ کا جانور جو آرام کے دوران کمانی دار شکل سے کنڈی مار کر بیٹھتا ہے اور خاص طور پر ہر درخت کی چھال کی بیمار حصوں میں رہتا ہے۔التَدَاخُل (ف) بیک وقت اور ایک ہی جگہ دو اہتزازی حرکتوں کا وقوع۔رجلٌ مُتَدَاخِل: موٹا گھٹے بدن کا آدمی۔
۲۔دُخِلَ امرُ فلانٍ: کسی کے معاملہ کا اندرونی خرابی رکھنا۔في عقله او جسده و دَخِلَ ۔ دَخَلاً: کی عقل یا جسم میں خرابی کا داخل ہونا۔صفت: مدخول عليه،
تَدَاخَلَ هُ: میں داخل ہوکر ایک جی ہونا۔الدَّخَل: عیب، شک، شبہ۔دَخْلُ الرجل: نیت راز۔الدَّخَل: عقل یا جسم میں فساد و خرابی، حسب و نسب کا عیب، دھوکا۔دَخْلَتُهُ و دِخْلَتُهُ و دُخْلَتُهُ: کی نیت، کا راز، کہا جاتا ہے هو عفيف الدخلة: وہ نیت کا پاک ہے۔الدِخْلَة: راز۔ اسی سے ہے عَرَّفْتُهُ دِخْلَةَ امري: میں نے اپنے کام کا راز اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔دُخَّلُ و دُخَّلَى و دُخَيْلاءُ الرجل: نیت، راز۔دَاخِلَةُ الانسان جمع دَوَاخِل: نیت،

مذہب، راز۔الارض: زمین کا پست حصہ۔دَخِيلُ الرجَل: نیت، راز، مذہب، کہا جاتا ہے داءٌ دخيل: بدن کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جانے والی بیماری۔
دَخِيلَةُ الشيء: چیز کا اندرونی حصہ۔المرء: انسان کی نیت، انسان کا ضمیر (اندرونی خیال)۔المُدْخَل (مفع): کمینہ، رذیل، غیر قوم میں داخل ہونے والا۔المَدْخُول: وہ جس کی عقل میں فساد و خرابی ہو، عیب دار، دبلا پتلا۔نَخْلَةٌ مدخولة: اندر سے بدبودار کھجور کا درخت۔
۳۔الدُّخْلُل و الدِخْلَل: بھیدی، رازدار۔دُخْلُلُ الرجلِ: اس کی نیت، راز، اس کے امور میں دخیل۔الدِخْلَل: گوشت میں داخل ہونے والی چربی۔
دَخَلَ ۔ دُخُولاً هُ: میں داخل ہونا (کبھی صلہ في اور الی کے ساتھ) کے اندر جانا، کے اندر قدم رکھنا، چل کر جانا، میں رہنے لگنا، میں پیدا ہونا، منتخب ہونا۔ میں سرایت کرنا۔ گھس جانا، کو چیرنا۔هـ: پر قابض ہونا، پر (شک) پڑنا، کو اچانک متاثر کرنا۔(شک وغیرہ کا) پر گہرا اثر کرنا۔خدمةً: کوئی کام شروع کرنا۔علي: کے کمرہ یا گھر میں داخل ہونا۔ سے ملنے جانا، کی ملاقات کو جانا۔ــ علي/ب: (عورت) کے ساتھ ہمبستر ہونا۔ سے مباشرت کرنا، صحبت کرنا۔ــ علي: (خوشی کا) کسی کو متاثر کرنا، پر اثر انداز ہونا۔ــ علي: میں اضافہ ہونا (گرامر)، پر ایک نئے عنصر، پہلو، عنصر وغیرہ کی حیثیت سے داخل ہونا، حائل ہونا، میں نیا نیا لاکر رکھا جانا، کو حاصل کرنا۔ــ ه/ في: مذہبی، فرقہ وغیرہ میں شامل ہونا۔ــ ه: میں حصہ لینا، شرکت کرنا۔ــ: (وقت، واقعہ کا) شروع ہونا۔ــ في: میں شامل ہونا۔في ضمنَ يا تحتَ: کے ضمرہ میں آنا، شامل ہونا، داخل ہونا، سے متعلق ہونا، کے اندر اندر ہونا،
دُخِلَ: بیمار ہونا، غیر معمولی ہونا۔دَخَلَ علي الامرِ تعديلٌ: معاملہ میں ترمیم ہوئی ہے۔معاملہ ترمیم کے عمل سے گزرا ہے۔دخل الخدمة: عہدہ، نوکری کرنے لگنا، کوئی کام شروع کرنا، کام کیلئے حاضر ہونا۔دخل المدرسةَ: سکول میں داخل ہونا، داخلہ لینا۔دخل الميناءَ: بندرگاہ میں داخل ہونا، سمندری جہاز کا کسی بندرگاہ پر رکنا۔دخل في الموضوع: اصل بات پر آنا۔دُخِلَ في عقلهِ (في جسمه): کسی دماغی یا جسمانی گڑبڑ میں مبتلا ہونا۔دَخَّلَ ه/ ه: کو داخل کرنا، کو داخل ہونے دینا۔ــ ه في/ ه: کو میں داخل کرنا، ڈالنا، شامل کرنا۔دَاخَلَ ه: (شک، شبہ، مایوسی کا) کسی پر نازل ہونا، یا کو قبضہ میں کر لینا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اَدْخَلَ ہ: کوداخل کرنا، داخل ہونے دینا، اندر لے جانا، کوآنے دینا۔ ــــ ہ فی/علی: کومیں لیجانا، کو میں کھینچا، گھسیٹنا، کھچنے ہوئے لیجانا۔ ہ ہ/فی کومیں شامل کرنا۔ ہ علی: کومیں وجود میں لانا، یاپیش کرنا، میں نئی چیز، اصلاح وغیرہ، رائج کرنا۔ اَدْخَلَہُ المدرسۃ: کوسکول بھیجنا۔ اَدْخَلَ تغیرًا علی: میں تبدیلی کرنا۔ اُدْخِلَتْ علیہ تعدیلاتٌ: معاملہ میں تبدیلیاں کی گئیں۔ تَدَخَّلَ فی: میں خواہ مخواہ دخل دینا۔ میں مخل ہونا، مداخلت کرنا، کے بیچ میں آنا، حائل ہونا، پر چھا جانا، پر مسلط ہو جانا، میں خلل ڈالنا، کودرہم برہم کرنا، تَدَاخَلَ فی / فی شؤونہ: میں، کے معاملات میں خواہ مخواہ دخل دینا۔ فی الحدیث: گفتگو میں اندھادھند کود پڑنا۔ فی میں مخل ہونا، مداخلت کرنا، کے بیچ میں پڑنا، کے کے آڑے آنا، ایک دوسرے میں پھنسنا، ایک دوسرے میں اٹکنا، جال میں پھنسنا۔ تَدَاخَلَ بعضُہٗ فی بعضٍ (ببعض): ایک دوسرے میں خلط ملط ہونا، گھل مل جانا، ایک ہو جانا، تداخل ہ: (شک، غم وغیرہ کا) کسی پر نازل ہونا کومتاثر کرنا، کا کسی کوخیال آنا، یا سوچنا، یا کسی کو گرفت میں لینا۔

○ دخل: آمدنی، ٹیکسوں وغیرہ سے کسی حکومت کی آمدنی، جیسے مالیہ، منافع، وصولی، کل آمدنی، مجموعی یافت، مداخلت، شک، بےاعتمادی۔ ضریبۃُ الدخل: انکم ٹیکس لیس لہ ای دخل فیہ یا لا دخلَ لہ فی/ب: اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے چاہئے کہ وہ اس معاملہ میں خواہ مخواہ دخل نہ دے، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ دَخَل: گڑبڑ، خرابی، خلل، پاگل پن، دیوانگی، پراگندگی، فساد، بے ضابطگی، بیماری، مرض، علالت، عدم توازن یا دماغی نقص، عیب، کمزوری، دِخْلَۃَ: داخلی یا باطنی طبیعت، لازمی جزو، داخلی ذات دل، روح، ضمیر (کسی شخص کی) خفیہ ارادہ۔ راجَعَ بِخْلَتَہُ: اپنے ضمیر کو ٹٹولنا، اپنے آپ سے راز و نیاز میں کھونا۔ لیلۃُ الدُخْلَۃَ: شب عروسی دُخَّلَۃَ: ایک گانے والے پرندہ کی قسم۔ دَخِیل: اندرونی، داخلی، باطنی، اندر کی طرف، دل، داخلی ذات، گودا، مغز، جمع دُخَلاء، اجنبی، پردیسی، غیر متعلق، غیر ملکی، بیرونی، دخیل (کلمات) غیر حقیقی جھوٹا، دروغ گو، جعلی، ــــ علی: میں نیا نیا شامل ہونے والا۔ ــــ: نوآموز، اناڑی، نومذہب، مہمان، متوسل، زیر نگرانی یا زیر حمایت شخص، زیر نگرانی شخص، زیر ولایت، کلمۃٌ دخیلۃٌ اور لفظٌ دخیلٌ غیر ملکی لفظ یا الفاظ۔ دَخِیلَک: مہربانی ہوگی، ازراہ نوازش، ازراہ کرم، دَخِیلَۃ جمع دَخَائِل: داخلی ذات، قلبی ہستی، باطنی طبیعت، جوہر، روح، دل، فی دخیلۃ نفسہ: اپنے دل میں، دلی طور پر، روحانی طور پر، دخائلُ نفوسنا: ہمارا بالکل اندرونی وجود۔ دخائِلُ الاُمُور: چیزوں کی اصل اور بنیادی طبیعت۔ چیزوں کے اصل عناصر۔ دخائل شُؤونِہ: کے نجی یا داخلی معاملات۔ دُخُول: داخل ہونا دخول، داخلہ داخل ہونا آنا، شروع، آغاز، گھسنا، مداخلت بیجا، دخل اندازی، زبردستی داخل ہونا، حملہ، یورش، چڑھائی، دھاوا، تصرف، دست درازی، قبضہ، شادی کی پہلی مباشرت، مجامعت یا صحبت۔ دخول الحرب: جنگ میں داخلہ۔ دُخُولِیۃ: محصول چونگی۔ مَدْخَل جمع مَدَاخِل: راستہ، گزرگاہ، دروازہ، ڈیوڑھی، پیش دالان، برآمدہ، داخلہ ہال (بندرگاہ، نہر کا) دہانہ منفی قطب (Anode) آگہی کے کسی شعبہ کا تعارف، رویہ، طرز عمل، طور طریقہ، مدخلٌ للسیارات: گاڑیوں کے استعمال کیلئے کسی مکان اور سڑک کے درمیان نجی سڑک (Drive-Way)۔ مدخلٌ لدراسۃ القانون: مطالعہ قانون کا تعارف۔ حُسْنُ المدخل: اچھا طرز عمل، عمدہ تہذیب، شائستگی۔ مُدَاخَلَۃ: مداخلت۔ فی: میں شرکت، دلچسپی، اِدْخَال: اندر لیجانا، داخل کرنا، الجھانا، شامل کرنا، پھنسانا، پوشیدہ معنی، منشا، الجھاؤ، پیچ، لپیٹ، اندراج، شمولیت، الحاقی عبارت، تحریف، اضافہ، الحاق، تشکیل، ادخال: داخلہ، شرکت، رواج دہی، اجراء، آغاز، تعارف (جیسے دستور کا اجراء)۔ علی: کسی آلہ وغیرہ کی اصلاح۔ تَدَخُّل: داخلہ، حملہ۔ فی: میں مداخلت، دست اندازی، کے درمیان میں آنا، خلل اندازی، زبردستی داخل ہونا، مداخلت بیجا، زبردستی گھسنا، عدم التدخل: عدم مداخلت، تَدَاخُل: مداخلت، ایک دوسرے میں پھنسنا، اٹکنا، ایک دوسرے کے ساتھ متقفل ہونا، ایک دوسرے کے اوپر رکھنا، سرایت، نفوذ، داخِل فی: کے متعلق کے تحت آنے والا، میں شامل۔ داخلی: اندرونی باطنی، اندر کی طرف، (کسی چیز کا) اندرونی حصہ۔ داخِلَ: کے اندر، کے اندر اندر میں داخلاً: اندر کی طرف، اندر، من الداخل: اندر سے داخِلۃ جمع دَوَاخِل: اندر کا حصہ، پوشیدہ حصہ، بالکل اندرونی۔ الداخلۃ: (وسطی مصر میں) داخلہ نامی نخلستان۔ داخلی: داخلی اندرونی، اندر کی طرف، گھریلو، ملکی، وطنی، (غیر ملکی کے مقابل میں جسے عربی میں خارجی کہتے ہیں) دیسی، وطنی، اصلی، قدرتی، غیر مصنوعی، نجی، گھر کے متعلق، گھر کا داخِلِیًّا: اندر سے۔ تلامیذ داخلیۃ: اقامتی طلبہ (تلامیذ خارجیۃ دن کے یا غیر اقامتی طلبہ) حرب داخلیۃ: خانہ جنگی، مدرسۃ داخلیۃ: اقامتی مدرسہ یا سکول ملابس داخلیۃ: زیر جامہ۔ ملاحۃ داخلیۃ: اندرونی جہازرانی (ملک کے اندر جہازرانی) داخلیۃ: اندرون ملک۔ داخلیۃ البلاد: ملک کا اندرون، اندرونی علاقہ۔ وزارۃُ الدخلیۃ: وزارت داخلہ۔ وزیر الداخلیۃ: وزیر داخلہ۔ مَدْخُول: بیمار، خلاف معمول، دماغی (طور پر) کمزور، کمزور کردار والا، غیر مستقل مزاج، بے ہمت، (جمع مَدَاخِیل: مالیہ، آمدنی) حکومت کی ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمد، کل آمدنی، مجموعی یافت۔

دخم: ۱۔ دَخَمَ ـ دَخْمًا ہٗ: کو گھبرا کر ہٹانا۔

۲۔ دَخْمَسَ دَخْمَسَۃً ہٗ: کو دھوکا دینا۔

○ دَخْمَسَ دَخْمَسَۃً علی: (اپنے حقیقی ارادوں کے بارے میں) کو بیوقوف بنانا کو جل دے جانا، کو دھوکا دینا، سے اپنے ارادے چھپانا۔ ــــ: عیار ہونا، مکار ہونا، فریبی ہونا، چالاک ہونا۔ دَخْمَسَۃ: بیوقوف بنانا، دھوکا، فریب، دغا عیاری، چالاکی، مکاری۔

دخن: ۱۔ دَخَنَ ـ دَخْنًا و دُخُونًا و اَدْخَنَ و اِدَّخَنَ ت النارُ: آگ سے دھواں اٹھنا۔ دَخِنَ ـ دَخَنًا الطعامُ و اللحمُ وغیرھما: کھانے، گوشت وغیرہ میں دھواں لگ کر دھویں کی بو دینے لگنا صفت دَخِن۔ ــــ ت النارُ: آگ کا دھواں اٹھانا۔ ــــ و دَخُنَ ـ دُخْنَۃً: دھوئیں کے رنگ کا ہو جانا۔ صفت: اَدْخَن مؤنث دَخْناء۔ دَخَّنَ: تمباکو نوشی کرنا۔ یہ بھی کہتے ہیں:۔ دَخَّنَ لفافۃً او نارجیلۃً: اس نے سگریٹ پی یا حقہ پیا۔ ــ الشیءَ: کو دھونی دینا۔ تَدَخَّنَ: دھوئیں کی بو دینا۔ ــ النارُ: آگ سے دھواں اٹھنا۔ الدَخَن (مص): دھواں۔ الدُخْنَۃ: دھواں رنگ، خوشبودار دھواں، عود، لوبان۔ الدُخَان و الدُخَّان جمع اَدْخِنَۃ و دَوَاخِن و دَوَاخِین: دھواں، (مولدین کی اصطلاح میں) تمباکو۔ المَدْخَن: دھویں کی جگہ۔ المدخَنَۃ: دھواں نکلنے کی چمنی۔ عام لوگ اسے داخون کہتے ہیں اس کی جمع دواخین ہے۔ المِدْخَنَۃ جمع مَدَاخِن: انگیٹھی۔ الداخِنَۃ جمع دَوَاخِن: دھوا نکلنے کا روشندان، چمنی۔ الدَخْنان مؤنث دَخْنَانَۃ: دھویں سے ڈھانکی ہوئی چیز۔

۲۔ دَخِنَ ـ دَخَنًا خُلقُہٗ: بدعادت ہونا، بدخلق ہونا۔ الدَخَن (مص): فساد، خرابی (کہا جاتا ہے۔ لست

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

أصالحه علی دَخَنٍ: میں اس کے مکر وفساد کی حالت میں اس سے مصالحت نہیں کروں گا۔) کینہ، عقل، دین اور حسب میں تغیر۔

۳۔ اِدَّخَنَ الزرعُ: کھیتی کے دانوں کا سخت ہوجانا۔

۴۔ الدُّخن واحد دُخنَةٌ: (ن) باجرا، کنگنی۔ ابُو دُخْنَة (ح): ایک قسم کا پرندہ چنڈول جیسے رنگ کا۔

○ دَخِنَ۔دَخَنًا: دھویں جیسا ہونا، دھوئیں کی بو یا ذائقہ دینا۔ دَخَنَ۔ دَخْنًا: دھواں چھوڑنا، سے (آگ سے) دھواں نکلنا۔ دَخَّنَ ہ: کو دھونی دینا، سے دھواں اٹھنا، کو دھویں سے سکھانا، درست کرنا، ۔ ہ: سگریٹ پینا، تمباکو پینا، حقہ پینا۔ ۔اِدَّخَنَ: آگ سے دھواں نکلنا۔ آگ کا دھواں چھوڑنا۔ تَدَخَّنَ: دھواں اٹھنا، پھیلانا، دھویں سے ٹھیک ہونا، خوشبو دار ہونا، معطر ہونا، دھونی دیا جانا۔ دُخن باجرہ، کنگنی، جوار (مفنّی) دخن دھوان، دھونی، بخارات، دُخان (دُخان) جمع اَدْخِنَة: دھواں، دھونی، بخارات، تمباکو۔ دُخْنَة: دھواں رنگ، ایک قسم کی لوبان خوشبودار دھوان، عود۔ دَخِينَة: سگریٹ۔ دَخَاخِنِيّ: تمباکو فروش۔ مَدْخَنَة جمع مَدَاخِن: چمنی، (دخانی جہاز، ریلوے انجن یا فیکٹری سے دھواں یا بھاپ نکلنے کی) چمنی دودکش، تَدخِين: دھونی دینا، مچھلی کو محفوظ رکھنا، تمباکو نوشی۔ داخِنَة جمع دَوَاخِن: چمنی، (دخانی جہاز، ریلوے انجن یا فیکٹری کے دھویں اور بھاپ نکلنے کی) چمنی۔ مُدَخِّن: تمباکو پینے والا، تمباکو نوشی کا عادی، دھویں میں سکھانے والا۔

دخی: الدَّخی: تاریکی۔ لیلةٌ دَخْیاء: تاریک رات۔

دد: الدَدَ: کھیل کود (اس کا لام کلمہ غد کی طرح یعنی محذوف ہے۔ کبھی اس واو کو الف سے بدل کر الدَّدَا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ ما انا فی دَدٍ ولا الدَّدُ مِنّی: میرا کھیل کود سے کوئی تعلق نہیں اور نہ یہ میرا کوئی شغل ہے)۔ وقت: کہا جاتا ہے: مضی دَدٌ من الدهر: زمانہ کا کچھ وقت گزر گیا۔

۲۔ د۔ د۔ ت (ك): ڈی ڈی ٹی۔ کیڑے مکوڑے مارنے کا ایک کیمیاوی مرکب۔

ددب: الدَیدَب و الدَیدُبان (فارسی لفظ): چوکیدار، نگہبان، ہراول، رہبر۔

☆ دَیْدَبان و دَیْدُبان جمع دیدبانات و دیادبة پہرہ دار، سنتری، دیدبان السراکب۔ جہازران۔

ددن: الدَّدَن: لہو ولعب۔ الدَّدَان: بے دولت، بے خبر، کند تلوار، شمشیر بُراں (ضد)۔ الدَیدَن و الدَیدان: عادت، معمول۔

درّ: ا۔ دَرَّ۔ دَرًّا الحلیبُ: دودھ زیادہ ہونا۔ ۔ت الدنیا علی اھلھا: دنیا کے خیر کی اہل دنیا پر فراوانی ہونا۔ ت الناقةُ بلبنھا: اونٹنی کا بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے۔ دَرَّت حلوبتُهُ: اس کی آسودگیاں بڑھ گئیں۔ دَرًّا و دُرُورًا العروقُ: رگوں کا خون سے بھر جانا۔ العَرَقُ: پسینہ بہنا، ۔ت السماءُ: بارش کا برس پڑنا۔ اَدَرَّت الناقةُ: اونٹنی کا دودھ زیادہ ہوکر بہنا۔ کہا جاتا ہے۔ اَدَرَّ اللّٰه لك اخلاف الرزق: اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی فراوانی سے نوازے۔ اِستَدَرَّ اللبنُ: دودھ زیادہ ہونا ۔ ہُ: کو بہنے دینا، الدَّرّ (مص): دودھ، دودھ کی زیادتی۔ کہا جاتا ہے۔ لِلّٰهِ دَرُّہُ: اس کی خوبی اللہ ہی کے لئے ہے۔ لا دَرَّ دَرُّہُ: خدا کرے اس کی بھلائی زیادہ نہ ہو، اسی سے ضرب المثل ہے۔ لِکُلِّ دَرٍّ حالبٌ: ہر دودھ کا کوئی دوہنے والا بھی ہے۔ الدَّارّ (فا) جمع دُرُورٌ و دُرَّرٌ و دُرَّار: بہت دودھ والی اونٹنی۔ الدِرَّةُ جمع دِرَر: دودھ، دودھ کی زیادتی، دودھ کا بہاؤ، خون۔ الدَرُور: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ حربٌ دَرُورٌ: خونریز جنگ۔ التِدِرَّة: بہت دودھ۔ المِدْرار: بہت بہنے والا یا بہت دودھ والا۔ کہا جاتا ہے۔ عینٌ مِدرارٌ: بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔ سماءٌ مِدرارٌ: بہت برسنے والا بادل۔

۲۔ دَرَّ۔ دَرًّا النباتُ: سبزہ پھوٹنا اور گنجان ہونا۔

۳۔ دَرَّ۔ دَرًّا و دُرُورًا السراجُ: چراغ کا روشن ہونا۔ دَرًّا وجهُہ: بیماری کے بعد چہرے پر رونق آجانا۔ رنگ کا بحال ہونا۔ الدُرّ واحد دُرَّة جمع دُرَر و دُرّات: بڑے موتی۔ الکوکبُ الدرّي بتثلیث الدال (فك): چمکتا ہوا روشن ستارہ۔ دُرِّیُّ السیف: تلوار کی چمک دمک، آب و تاب۔ الدَرِیر: روشن چراغ۔

۴۔ دَرَّ۔ دَرًّا و دُرُورًا السوقُ: گرم بازاری ہونا۔

۵۔ دَرَّ۔ دَرِیرًا الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ اَدَرَّ المغزل: تکلے کو زور سے گھمانا۔ الشیءَ: کو حرکت دینا۔ ت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل لانا۔ استدرت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل لیکر آنا۔ دَرَرُ الریح: ہوا کی سمت۔ فرسٌ دَرِيٌّ بتثلیث الدال: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔ الدَرِیر (مص): تیز رفتار جانور۔ الدَرّارة: تکلہ۔

۶۔ اَدَرَّ علیه الضربَ: کو پے درپے مارنا۔ الدِرَّة جمع دِرَر: کوڑا۔ کہا جاتا ہے۔ مرَّ علی دِرَّتِهِ: اس کو کوئی چیز اپنے ارادے سے نہیں پھیر سکتی۔

۷۔ الدَرّ: روح، نفس۔ دَرَرُ الطریق: راستے کا بیچ۔ کہا جاتا ہے: ھما علی دَرَرٍ واحدٍ: وہ دونوں ایک ہی راہ پر گامزن ہیں۔ الدُرَّة (ح) طوطا۔

○ دَرَّ۔ دَرًّا: افراط سے بہنا، بہنا، پھوٹ کر نکلنا، ابلنا۔ علی: کے لئے بڑھنا (منافع، دولت کا) ۔: بافراط ہونا، بہت ہونا، فراواں ہونا۔ اَدَرَّ: بہانا۔ ہ علی: کوئی چیز کسی کو دل کھول کر دینا، کسی چیز کی کسی پر بھرمار کرنا، کسی چیز کی کسی پر بوچھاڑ کرنا سے کسی کو گھیرے میں لے لینا۔ ہ علی: نفع کسی کو دینا۔ اِستَدَرَّ: بہنا، کی بہتات ہونا۔ ہ: کے فراواں بہاؤ کا باعث ہونا یا اس کی کوشش کرنا، کو بہت نفع آور بنانا، کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نفع حاصل کرنا چاہنا، روزی کی کوشش کرنا۔ دَرّ: دودھ، کامرانی، کارنمایاں، فضیلت۔ لِلّٰهِ دَرُّہُ: اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، وہ کتنا لائق، اچھا یا عمدہ ہے۔ دُرّ موتی (جمع) دُرَّة جمع دُرّات و دُرَر: موتی: طوطے کی ایک قسم۔ دُرِّي: جگمگاتا ہوا، درخشاں، منور، چمکدار، روشن، تاباں (ستارہ)۔ دِرَّة و دَرَّة جمع دِرَر: چوچی، سر پستان، تھن، پستان، مِدرار: بہت بارش برسانے والا (آسمان، بادل)، زور سے بہنے والا، دھار بن کر بہنے والا، زور سے ہونے یا پڑنے والی (بارش)۔ پھوٹ نکلنے والا (پانی) دارّ: زور سے بہنے والا، بارآور، زرخیز، ثمرآور، نفع بخش، پر منفعت، سودمند، نفع رساں، مُدِرّ: مُدِرٌّ للبول جمع مدارت البول: پیشاب آور دوا۔ مُدِرٌّ للعرق: پسینہ آور، عرق آور۔

درأ: ا۔ دَرَأَ۔ دَرْءًا و دَرْأَةً ہُ: کو زور سے دھکیلنا، ہٹانا۔ السیلُ علیه: پر سیلاب کا امنڈ پڑنا۔ کہا جاتا ہے۔ دَرَأَ الرجلُ علینا: وہ شخص اچانک ہم پر ٹوٹ پڑا۔ دارَأَ مُدارَأةً ہ: ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ تدارَأَ تدارُؤًا القومُ: جھگڑے میں بات کو ایک دوسرے پر ڈالنا۔ اِندَرَأَ السیلُ: سیلاب کا یک بیک امنڈ پڑنا۔ الحریقُ: آگ کا پھیل جانا۔ فلانٌ علینا: کسی کا ہم پر اچانک نمودار ہونا۔ الدَرْء: پیچھے ہٹانا، روکنا، (اسی سے ضرب المثل ہے) دَرْءُ المفاسد اولی من جلب النِعَم: مفاسد کو دور کرنا نعمتیں حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے۔ جاء السیلُ دَرْءًا: سیلاب کسی کا نامعلوم جگہ سے اچانک بہہ آیا) مخالفت۔ المِدْرَأ: ہٹانے کا ذریعہ۔ الدَرِیئة: نشانہ بازی سکھانے کا حلقہ۔ التُدْرَأ و التُدْرَأة: عزت و شوکت کا مالک اور دشمن کو دفع کرنے والا۔

۲۔ دَرَأَ۔ دَرْأً و دَرْأَةً الشيءَ: کو پھیلانا، بچھانا۔

۳۔ دَرَأَ۔ دُرُوءًا النارُ: آگ کا روشن ہونا۔ البدرُ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پورے چاند کا چمکنا۔الدُرّیِ والدِرّیُّ: چمکدار ستارہ۔ الدَرَارِی(فلک): نامعلوم الاسم بڑے بڑے ستارے۔

۴۔دَارَا مُدارَاۃً ہُ: سے نرمی برتنا، نرمی کا سلوک کرنا، کو دھوکا دینا، سے دھوکا کرنا، تَدَرَّاَ تَدَرُّؤًا الصائِدُ: شکاری کا شکار سے چھپ کر اس کو دھوکا دینا۔اِدَّرَا الصیدَ وللصید شکار کے لئے گھات میں بیٹھنے کی جگہ تیار کرنا۔الدَرِیئۃ شکار کو دھوکا دینے کے لئے گھات کی جگہ۔

۵۔تَدَرَّاَ تَدَرُّؤًا علیہ کی طرف جبر و تشدد کا ہاتھ دراز کرنا۔

۶۔الــدَرْءُ نیزہ وغیرہ کی چھڑی کی کجی۔کہا جاتا ہے۔ قَوَّمْتُ دَرْءَ ہُ میں نے اس کی کجی کو ٹھیک کر دیا۔

○ دَرَاَ دَرْأً ہ کو مسترد کرنا، سے عن: کو سے ہٹانا، دور کرنا۔۔ خطراً عنہ خطرہ کو کسی سے دور کرنا۔اِدَّارَ فی میں مسابقت کی کوشش کرنا۔دَرْءِ پیچھے ہٹانا، دور کرنا، روکنا، مزاحمت، منع کرنا، پھیرنا، موڑنا، ہٹانا، دور کرنا۔دَرِیئۃ جمع دریئات ہدف، نشانہ، چاند ماری کا نشان۔

○ درابزین: جنگلا، زینے کا جنگلہ، منڈیر، کٹہرا۔

درب ا۔دَرِبَ۔دَرَبًا و دُرْبَۃً ہوشیار اور ماہر کاریگر ہونا۔ بالشیء کا عادی ہونا، دلدادہ ہونا، صفت: دَرِب و دارِب مؤنث دَرِبَۃ و دارِبَۃ، دَرَّبَ ہُ بالشی و وفیہ و علیہ: کو کسی چیز کا عادی بنانا۔۔ الجندیُّ: فوجی کا بھگدڑ مچنے کے بعد بھی جنگ میں ڈٹا رہنا۔(یہ دُرْبۃ سے ماخوذ ہے)تَدَرَّبَ بالشیء و فیہ و علیہ کا عادی ہونا۔الدَرْب جمع دُرُوب و دِراب: راستہ گلی کا کشادہ دروازہ، سب سے بڑا دروازہ۔ الدُرْبَۃ (مص): عادت۔ لڑائی اور ہر کام میں جرأت و دلیری۔کہا جاتا ہے۔فی العَفْو دُرْبَۃ: عفو و درگزر بڑا دلیری کا کام ہے۔الدَرُوب و الدَرَبُوت من الجمال و النوق: سدھایا ہوا اونٹ یا اونٹنی۔ (الدُرْبَۃ سے ماخوذ ہے) الدُرَّابَۃ: جرأت، دلیری (لڑائی وغیرہ میں) المُدَرَّب (مفع): تجربہ کار، مصائب زمانہ جھیلے ہوئے۔من الابل: سدھایا ہوا اور گلیوں میں چلنے کا عادی اونٹ۔

۲۔اَدْرَبَ: بگل بجانا۔القومُ: دشمن کی سرزمین میں دخل ہونا۔

۳۔الدِرْبان و الدَرْبان جمع دَرابِنۃ: دربان (فارسی لفظ)

۴۔دَرْبَزَ البابَ: دروازہ بند کرنا اور اندر سے کنڈی لگا کر باہر سے کھولے جانے کا سد باب کرنا۔(عام لوگوں کی زبان میں)الدَرْبَزِین و الدَرَابزین و الدَرَابْزُون جمع دَرابْزُونات: ستونوں کا جنگلہ۔(یونانی لفظ)

۵۔الدِرباس (ح) شیر۔ (ح) کاٹنے والا کتا۔

۶۔دَرْبَصَ دَرْبَصَۃً: خوف سے خاموش ہو جانا۔

۷۔الدَّرْبَنْد: دکان کا قفل (فارسی لفظ)

○ دَرِبَ۔ دَرَبًا و دُرْبَۃ ب: کا عادی ہونا، میں تربیت یافتہ ہونا، ماہر ہونا۔دَرَّبَ ہ فی یا ب یا علی: کو کا عادی بنانا، کو کی عادت ڈالنا، کو کا خوگر کرنا، کو میں سدھانا۔۔ ہ فی /ب /علی: کو کی مشق کرانا، کو کی تربیت دینا، کو کی تعلیم دلانا یا دینا، میں کی اتالیقی کرنا، تَدَرَّبَ فی /علی: کا عادی ہونا، میں مشاق ہونا، ماہر ہونا، تربیت یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا۔۔: کھلاڑی کا سدھایا ہوا ہونا۔دَرْب جمع دُرُوب: پہاڑ کا تنگ درہ، راستہ، سڑک، گلی، کوچہ۔دربُ التَبّانۃ: کہکشاں۔دُرْبۃ: خو پذیری، میلان، رغبت، رجحان، عادت، واقفیت، تجربہ، مہارت، مشق، دَرِیبَۃ: عدالت درخواست۔تدریب: عادی بنانا، خوگر بنانا، عمل، مشق، تعلیم دینا، تربیت، اتالیقی کرنا، سکھانا، سدھانا۔التدریب العسکری: فوجی تربیت۔مُدَرَّب جمع مُدَرَّبُون: تجربہ کار، مشق کیا ہوا، ماہر، تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ۔ مُدَرِّب‌ون جمع مُدَرِّبُون: انسٹرکٹر، تربیت دینے والا کوچ (کھیلوں میں)، سدھانے والا (جانوروں کو)۔

○ دَرْبَسَ ہ: دروازہ کی چٹخنی چڑھانا، دروازہ کو کنڈی لگانا، دِرْباس جمع دَرَابِس: چٹخنی، دروازے کی چٹخنی، دروازے کا کھٹکا۔

○ دَرْبُکَّۃ و دِرْبَکّۃ جمع دربکات: دمدمہ، نقارہ، ڈھولک۔دَرْبَکۃ: شوروغل، کھلبلی، دھماکہ خیز کھڑکھڑاتی آواز۔

درج: ا۔دَرَجَ۔دُرُوجًا و دَرَجَانًا الشیخُ او الصبیُّ: بوڑھے یا بچے کا چلنا۔دَرِجَ۔ دَرْجًا: اپنے راستہ پر چلنا۔اِسْتَدْرَجَ ہُ: کو زمین پر چلانا۔الدَرَج جمع اَدْرَاج و دِرَاج: راستہ، کہا جاتا ہے۔خَلِّہ دَرَجَ الضَبّ: جس طرح وہ جاتا ہے جانے دو۔ (اسے اپنے حال پر چھوڑ دو) رجعتُ اَدْراجی: میں جس راستہ سے آیا تھا، اسی سے لوٹا۔الدَارِج (فا) کہا جاتا ہے صبیٌّ دارِجٌ: پاؤں پاؤں چلنے والا بچہ۔الدَارِجۃ جمع دَوَارِج: جانور کی ٹانگ۔ الدَرَّاج: چغل خور (ح) یہی۔الدَرَّاجۃ: سائیکل۔ عام لوگ اسے کَرَّاجۃ کہتے ہیں۔البسکلت بھی کہا جاتا ہے۔محاصرہ کی مشین۔المَدْرَج جمع مَدَارِج: راستہ، مسلک، لاَمشِ فی مدرج الحق: حق کے راستہ پر چلو)ہوائی اڈے میں طیارے کی سڑک۔(Run Way) مَدْرَجُ النملِ: چیونٹوں کے چلنے کی جگہ۔کہا جاتا ہے ھوا اخفی من مدرج النمل: وہ چیونٹوں کے راستہ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔۔۔ الاکمۃِ: ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے پہاڑی راستے۔المَدْرَجَۃ جمع مَدَارِج: راستہ، راستے کا بڑا حصہ۔

۲۔دَرَجَ۔ دُرُوجًا و دَرَجَانًا الرجلُ: سیڑھیوں پر چڑھنا۔البناءَ: کو منزلوں والا مکان بنانا۔دَرِجَ۔ دَرَجًا: ترقی کے مدارج طے کرنا۔دَرَّجَ البناء: عمارت کا زینہ بنانا۔ہ الی کذا: کو دھیرے دھیرے کسی کے قریب کرنا۔تَدَرَّجَ الی کذا: کی طرف رفتہ رفتہ بڑھنا۔اِسْتَدْرَجَ ہُ: کو ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں ترقی دینا، کو دھوکا دینا۔۔۔ ہ الی کذا: کو کے قریب کرنا۔الدَرَج جمع اَدْرَاج و دِرَاج: ایک دوسرے پر مراتب۔دَرَجُ السُلَّم: سیڑھی کا پایا۔الدَرَجَۃ جمع دَرَج: سیڑھی۔ جمع دَرَجات: طبقہ، رتبہ، درجہ، مرتبہ، چھوٹے یا بڑے دائرے کے محیط کا ۳۶۰ واں جزء۔۔۔ السینیۃ: زاویہ قائمہ کے ۹۰ اجزاء میں سے ایک جزء، جو ۶۰ دقیقہ کے برابر ہوتا ہے۔دقیقہ کے ۶۰ ثانیے ہوتے ہیں اور ثانیہ کے دس ثالثے اور ثالثہ دس روابع کا ہوتا ہے۔ عرب ثانیہ کو ۶۰ ثالثوں میں اور ثالثہ کو ۶۰ رابعوں میں تقسیم کرتے تھے۔وقس علی ھذا۔ المؤیۃ او غراد: زاویہ قائمہ کا ایک سواں جزا جو عشری طریقے کے مطابق ۱۰ ڈیسی گریڈ اور ڈیسی گریڈ ۱۰ سنٹی گریڈ اور یہ ۱۰ ملی گریڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔المَدْرَجَۃ جمع مَدَارِج: افضل یا اعلیٰ تک رسائی کا واسطہ اور ذریعہ۔ کہا جاتا ہے ھذا الامر مَدْرَجَۃٌ لھذا۔ یہ اس امر کے لئے واسطہ ہے۔المُدَرَّجُ: کھلی سیڑھی، کھلا تماشہ، سامعین (اور ناظرین) کے بیٹھنے کی جگہ، وہ عمارت جہاں لیکچر دیئے جاتے ہیں۔(Lecture Room, auditorium ampli theatre)، سینما سکرین، نصف دائرہ کی شکل کی وسیع عمارت جس میں سیڑھیوں کی طرح درجہ بدرجہ کرسیاں ہوئی ہیں اور سامنے کھیلوں کے لئے میدان ہوتا ہے جسے سٹیڈیم کہتے ہیں۔ (Stadium)۔

۳۔دَرَجَ۔دُرُوجًا و دَرَجَانًا القومُ: ختم ہو جانا، مر جانا، کہا جاتا ہے ھو اکذبُ مَنْ دبَّ و دَرَجَ: وہ زندوں اور مردوں میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔۔۔ الرجلُ: بے اولاد فوت ہونا۔اِنْدَرَجَ القومُ: قوم کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ختم ہونا۔ کہا جاتا ہے ذهب دَمُهُ دَرَجَ او ادراجَ الرياح: اس کا خون رائیگاں گیا یعنی انتقام نہ لیا گیا۔ تـرابٌ دارِج: ہر جگہ پھیلنے والا غبار۔ کہا جاتا ہے۔ قبيلةٌ دارِجة: بالکل تباہ ہو کر ختم ہو جانے والا قبیلہ۔

۴ دَرَجَ ۓ دَرْجًا و دَرَّجَ الثوبَ اولكتابَ: کپڑے یا کتاب کو لپیٹنا، تہہ کرنا۔ أَدْرَجَ الثوبَ او الكتابَ: بمعنی بالا۔ الشيءَ في الشيء: ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا اور لپیٹنا۔ اِنْدَرَجَ في كذا: میں داخل ہونا۔ الدَرْج: لکھنے کا کاغذ۔ کہا جاتا ہے: اَنفذْتُه في درج الكتاب: میں نے اس کو خط کے ساتھ بھیج دیا۔ المُدْرَج و المُدْرَجَة جمع مَدَارِج: لپٹی ہوئی کتاب یا خط، خط لکھنے کا ورق یا کتاب لپیٹنے کا کاغذ۔ المَدْرَج ج مَدَارِج: تہہ کی ہوئی کتاب یا خط و رقہ جس پر پیغام لکھا جائے یا جس میں کتاب یا خط لپیٹا جائے۔

۵ دَرِجَ ۓ دَرْجًا: کلام یا دین میں سچائی کے راستے پر جمے رہنا۔

۶ ۔ دَرَّجَهُ الامرُ: معاملہ کا کسی کو تنگ دل کرنا۔

۷ ۔ الدُرْج جمع اَدْرَاج و دِرَجَة: عورتوں کی خوشبو یا اور چیزیں رکھنے کی صندوقچی۔ الدَرْج في القراءة روانی کے ساتھ پڑھنا۔ آپ کہتے ہیں: قَرَاَ دَرْجًا: اس نے روانی کے ساتھ پڑھا۔ عام لوگ اسے قرا کر جاً کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے هو وهم دَرْجُ يدك: وہ تیرے ہاتھ میں ہے یا ہیں۔ یعنی تمہارے اشارے پر چلنے والا یا چلنے والے ہیں۔ الدَرَج جمع اَدْرَاج و دِرَاج: لکھائی کے کام آنے والا کاغذ، دستہ، دو آدمیوں کے درمیان صلح کے لئے سفیر، الدُرَّج: بڑی مشقت کے کام جو انسان کو عاجز کر دیں۔ کہا جاتا ہے: وقع في الدُرَّج: وہ بڑی دشواری کے کام میں پھنس گیا۔ الدَرُوج من الرياح: تیز چلنے والی ہوا۔ الدُرَّاج جمع دراريج واحد دُرَّاجَة: (اس میں تا وحدت کی ہے) (ح) تیتر، نر و مادہ ہر دو کیلئے یکساں آتا ہے۔ الدَرَّاج: بہت پھرنے والا۔ ارضٌ مَدْرَجَةٌ جمع مَدَارِج: وہ زمین جس میں تیتر بکثرت ملیں۔

○ دَرَجَ ۓ دُرُوجًا: جانا، چلنا، متحرک ہونا، آگے بڑھنا (آہستہ آہستہ) ۔ الی: تک بتدریج رسائی کرنا، قدم بقدم پہنچنا۔ ۔ علی: راستہ پر چلنا کے مقررہ راستہ پر آگے بڑھنا، اسی طرح آگے بڑھنا۔ ــــ: دور جانا، چھوڑنا، روانہ ہونا۔ ۔ من: عادت وغیرہ ترک کر دینا۔ ــــ: گزر جانا، ختم ہو جانا، (وقت کا)، مر جانا، ناپید ہو جانا، رائج ہونا، گردش کرنا، (بچہ کا) بڑا ہونا۔ ــــ دَرْجًا ہ: کو لپیٹنا، تہ کرنا۔ ۔ ہ علی: کو کے ارد گرد لپیٹنا، باندھنا، بل دینا۔ دَرِجَ ۓ درجًا: قدم بقدم آگے بڑھنا، رفتہ رفتہ یا دھیرے اٹھنا۔ دَرَجَ العُرْف علی: یہ عام بات ہو گئی ہے کہ۔ دَرَّجَ ہ: کو اٹھانا اور قدم بقدم آگے بڑھانا کو درجہ بدرجہ ترقی دینا۔ ہ الی: کو بتدریج کے قریب لانا، کو کے قریب کرنا۔ ہ: کو لپیٹنا، تہ کرنا، کو پھیلانا، مشہور کرنا، رائج کرنا، کو عام دستور بنانا، کو درجوں وغیرہ میں تقسیم کرنا، کی درجہ بندی کرنا، اونچے درجے میں لیجانا۔ ہ في: کو میں داخل کرنا، شامل کرنا، ڈالنا۔ دَارَجَ ہ: (وقت، فیشن وغیرہ) کے ساتھ چلنا، کا ساتھ دینا، کی رفتار سے چلنا۔ اَدْرَجَ ہ في: کو میں ڈالنا، شامل کرنا، ضم کرنا، کو پر مشتمل کرنا، کو فہرست وغیرہ میں درج کرنا، کا فہرست وغیرہ میں اندراج کرنا۔ ہ: کو محفوظ کرانا۔ تَدَرَّجَ: دھیرے دھیرے ترقی کرنا، بتدریج آگے بڑھنا۔ الی: رفتہ رفتہ کی طرف بڑھنا۔ في: میں ترقی کرنا، درجہ بندی کرنا، درجہ بند ہونا۔ اِنْدَرَجَ في: میں ڈلنا، درج ہونا، شامل ہونا، ضم ہونا۔ في / تحت: میں یا تحت ترتیب پانا، درجہ بندی کیا جانا۔ اِسْتَدْرَجَ ہ: کو بتدریج آگے بڑھانا، بڑھانا، درجہ بدرجہ ترقی دینا۔ ہ الی: کو بتدریج تک لیجانا۔ کو کا قائل کرنا۔ ہ الی: کو للچانا، کو ورغلانا، اکسانا، ترغیب دینا، یا لالچ دے کر پھنسانا۔ دَرْج: اندراج، اندراج کرنا، رجسٹر میں درج کرنا، ریکارڈ کرنا، لپیٹنا ہوا یا تہ کیا ہوا کاغذ، کاغذ کا پلندا، لکھے ہوئے کاغذ کا پلندا۔ في درج الكتاب: کتاب میں۔ في درج الكلام: دورانِ گفتگو۔ دُرْج جمع اَدْرَاج: دراز (میز وغیرہ کی) ڈیسک (سکول کے بچوں کیلئے)۔ دَرَج جمع اَدْرَاج: راستہ، زینہ، سیڑھیاں، رَجَع ادراجَهُ یا عاد ادراجَهُ: اسی راستہ پر لوٹ جانا جس سے آیا تھا۔ واپس جانا، مڑ جانا۔ ذهبَ ادراج الرياح: ہوا کے راستوں پر چلے جانا یعنی نظر آئے بغیر گزر جانا، کوئی نشان چھوڑے بغیر چلے جانا، ٹائیں ٹائیں فش ہونا، بے نتیجہ ہونا، لا حاصل ہونا، ناکام رہنا، کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا، کا کچھ نہ بننا۔ دَرَجة جمع دَرَجات: سیڑھی، سیڑھیاں، قدمچہ، سیڑھی، پایہ، درجہ (جیسے حرارت، ریاضیات، جغرافیہ میں) ڈگری، حکم رتبہ، درجہ (کلاس ٹرینوں وغیرہ کی) (کسی صورت حال) کی حالت، کا مرحلہ، دور، نمبر، گریڈ (سکول میں) درجة الحرارة: درجۂ حرارت۔ درجة الطول: طول البلد کا درجہ۔ درجة علمية جامعية: جامعاتی سند (ڈگری) درجة العقل: ذہانت کی سطح۔ دفتر الدرجات: پراگرس رپورٹ (سکول کی طرف سے) من (في) الدرجة الاولى: درجہ اول کا۔ ذُو دَرَجة: اعلیٰ قسم کا، اونچے درجے کا، اونچے طبقہ کا۔ لِدَرَجَةِ اَن: کی حد تک، اس حد تک کہ، اس قدر کہ۔ تَدْرُج و تَدْرُجَة: تیتر، چکور۔ دَرّاجَة نارية: موٹر سائیکل۔ مَدْرَج جمع مَدَارِج: مسلک، راستہ جس پر کوئی چلے، راستہ، سڑک، پگڈنڈی، راہ، نقطۂ آغاز، شروع، ابتدا، آغاز، اٹھان ترقی، بالیدگی، نشوونما، پیدائش، فجر، صبح، تڑکا، شروعات، پکی سڑک طیارے سے نیچے تک، رن وے۔ نیز مُدَرَّج): کوئی تماشہ گاہ، آڈیٹوریم، لکچر گاہ، سٹیڈیم، کھیلوں کے اجتماعات پر تماشائیوں کے لئے صف دار نشستوں کے ساتھ ایک وسیع عمارت کھیل کے میدان میں کھلے بنچ، منذ مَدْرَجِه: اس کی شروعات سے ہی مَدْرَجُ نَشْأتِه وہ جگہ جہاں وہ بڑا ہوا ساز۔ في مدارج الرُقي: ترقی کے راستہ پر گامزن ہونا۔ على التدريج: مع التدريج و بالتدريج بتدريج: کچھ دیر بعد، قدم بقدم، منزل بمنزل، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ تدريجي: بتدریج، درجہ بدرجہ، تدریجی، تبدریج بڑھنے والا، ترقی پذیر، تدريجياً: بتدریج، قدم بہ قدم، منزل بہ منزل، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے مرحلوں میں تَدَرُّج: تدریجی ترقی، ارتقاء، درجہ بندی بالتَدرُّج: بتدریج، قدم بہ قدم، منزل بہ منزل، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے تدرجُ ارتقاءه: اس کا تدریجی عروج۔ استدراج: کسی کو بتدریج ہمنوا بنانے کی صلاحیت، اثر آفرینی، فن ترغیب۔ دارِج: رواں، جاری، نافذ، مروج، رائج، پھیلا ہوا، دور تک پھیلا ہوا، عالمگیر، مقبول، ہر دلعزیز، عوامی، روزمرہ کا، رواج پذیر، گردش میں۔ الكلام الدارج: عوامی زبان، روزمرہ کی زبان۔ اللغة الدارجة: عوامی زبان روزمرہ گفتگو کی زبان۔ مُدَرَّج: درجہ بندی کیا ہوا جمع مُدَرَّجات: کھلی سیڑھیاں کاغذ کا ٹکڑا، مکان کے سامنے چبوترا، گول تماشا گاہ، سٹیڈیم مُدْرَج في / ب) میں ڈالا ہوا ضم کیا ہوا، درج کیا ہوا، شامل، پر مشتمل۔

درح: دَرَحَ ۓ دَرْحًا ہُ: کو دفعہ کرنا، دور کرنا، ہٹانا، دَرِحَ ۓ دَرَحًا: بوڑھا ہونا، صفت دَرِح (مذکر و مونث) ۔ المَدْرَحِيَّة: مادیت اور روحیت سے ماخوذ ہے اور ان دو عقیدوں کے امتزاج سے کنایہ ہے یعنی خالق اور خلق اور انسانی رویہ میں مادی عوامل کی تاثیر کا اعتقاد۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

درد: ۱۔ دَرِدَ - دَرَدًا: غضبناک ہونا صفت دَرِد، بے دانتوں کا ہونا، صفت اَدْرَد مؤنث دَرْدَاء جمع دُرْد۔ اَدْرَدَہٗ: کے دانتوں کو گرانا۔ اسنانَہٗ: کو پوپلا کر دینا۔ الدُرْد (ح)۔ اگلے دانتوں کے بغیر تھن دار جانور جن کے ناخن زمین کھودنے میں مدد دیتے ہیں جیسے چیونٹی خور۔ الدُرْدِیّ من الزیت ونحوہ: تلچھٹ۔

۲۔ دَرْدَبَ الرجلُ: خوف زدہ کی طرح بھاگنا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا جیسے توقع ہو کہ اس کے پیچھے کچھ ہے۔ امرأۃ دَرْدَب رات میں آنے جانے والی عورت۔

۳۔ الدَرْدَبِیس: مصیبت، بوڑھا یا بوڑھی، بہت بوڑھی عورت۔

۴۔ دَرْدَرَ الشیخُ او الصبیُّ البُسْرَۃَ: آہستہ آہستہ کھجور چبانا۔ الدُرْدُر جمع دَرَادِر بچے کے دانت نکلنے کی جگہیں۔ الدرْدَار ڈھول کی آواز۔ ـــ او المُرّان (ن) ایک زرد پھولوں اور خار دار پتوں والا بڑا درخت۔ الدُرْدُود: بھنور۔

○ دَرِدَ - دَرَدًا: پوپلا ہوجانا، کے دانت نکل جانا۔ اَدْرَد: پوپلا۔ دُرْدِی گاد، درد، تلچھٹ، ریزہ، فضلہ، دَرْدَبِیس: بدصورت بوڑھی عورت، بوڑھی عورت، چڑیل، ڈائن۔

○ دَرْدَرَۃ: پانی کا شور، چھپ، طفلانہ گفتگو، ہرزہ سرائی۔ دُرْدُور: گرداب، بھنور، ورطہ، چکر

○ دَرْدَشَۃ: طفلانہ گفتگو، ہرزہ سرائی، بے کار باتیں۔

درز: ۱۔ دَرِزَ - دَرَزًا: دنیا کی نعمتوں اور لذتوں پر قادر ہونا۔ الدَرْز جمع دُرُوز: دنیا کی نعمتیں اور لذتیں۔ اُم دَرْزَۃ: دنیا (کی کنیت)

۲۔ دَرَزَ - دَرْزًا الثوبَ: کپڑا باریک سینا۔ ـــ الخیّاطُ الدُرُوزَ: درزی کا سیون کو باریک سینا۔ الدَرْز (مص) جمع دُرُوز: مغزی، گوٹ، سیون۔ اولاد دَرْزَۃ: درزی لوگ، جولاہے۔ الدَرْزِی: درزی۔

۳۔ بناتُ الدُرُوز: جوئیں اور ان کے انڈے۔ اولادُ دَرْزَۃٍ: کمینے لوگ۔ الدُرْزِی و الدَرَزِیّ جمع دَرَزَۃ نیز دُرُوز دُرْزِیۃ نامی جماعت سے منسوب۔

○ دَرَزَ: سینا، ٹانکے لگانا، بخیہ کرنا۔ دَرْز جمع دُرُوز: سیون، گوٹ، مغزی، سنجاف، سلائی۔ دُرْزِیّ جمع دُرُوز: دُرُوز: فرقہ دروز، لبنان کے قریب مسلمانوں کا ایک مذہبی فرقہ جس کا بانی اسمٰعیل الدروزی تھا۔ جبل الدروز: جنوبی شام میں دروزیوں کا پہاڑی وطن۔

درس: دَرَسَ - دُرُوسًا الرسمُ: نشان مٹنا، صفت: دارِس جمع دَوَارِس۔ ـــ الشیءُ: کا اثر جاتا رہنا۔ دَرَسًا الرسمَ: نشان کو مٹا دینا۔ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ دَرَسَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہوجانا۔ اِنْدَرَسَ الرسمُ: نشان کا مٹنا۔ الخبرُ: خبر ناپید ہونا۔ الدَرْس (مص) جمع دُرُوس: پوشیدہ راستہ۔ ـــ والدِرْس جمع اَدْرَاس و دِرْسَان والدَرِیس: بوسیدہ کپڑا۔ المَدْرُوس (مفع): بوسیدہ کپڑا۔

۲۔ دَرَسَ - دَرْسًا الناقۃَ: اونٹنی کو سدھانا۔ دَرَّسَ البعیرَ: اونٹ کو سدھانا۔ الدُرْسَۃ: ریاضت، ورزش

۳۔ دَرَسَ - دَرْسًا و دِرَاسَۃً الکتابَ او العلمَ: کتاب یا علم کو یاد کرنے کیلئے متوجہ ہونا۔ دَرَّسَ و اَدْرَسَ ہٗ الکتابَ: کو کتاب پڑھانا۔ دارَسَ مُدَارَسَۃً و دِرَاسًا الکتبَ: کتابیں پڑھنا۔ ہٗ: ایک دوسرے کو پڑھ کر سنانا، باہم پڑھنا۔ تَدَارَسَ الطلبۃُ الکتابَ: طلبہ کا کتاب مل کر پڑھنا۔ کہا جاتا ہے۔ تدارسَ الکتابَ و اِدَّارَسَہٗ: اس نے کتاب پڑھی۔ دُرُوسُ الأشیاء: انسانی جسم، حیوانات، نباتات، آلات، معدنوں، پانی، ہوا وغیرہ کے مطالعے۔

الدَرّاس: بہت پڑھنے والا۔ المَدْرَسَۃ: طلبہ کے تعلیم پانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ هذه مدرسةُ النِعم: یہ نعمتوں کا راستہ ہے۔ المِدْرَس: پڑھنے کی کتاب، پڑھنے کی جگہ۔ المِدْرَاس: تورات پڑھنے کی جگہ (گھر)۔

۴۔ دَرَسَ - دَرْسًا و دِرَاسًا الحنطةَ: گیہوں کو گاہنا، الدَرْس (مص) جمع دُرُوس: سبق طریقٌ مَدْرُوس: چلتا ہوا راستہ۔ فراش مَدْرُوسٌ: بچھا ہوا فرش۔

۵۔ دَارَسَ مُدَارَسَۃً و دِرَاسًا الذنوبَ: گناہوں کا ارتکاب کرنا۔

۶۔ الدَرْس والدِرْسُ جمع اَدْرَاس و دِرْسان و الدَرِیس: اونٹ کی دم۔ المَدْرُوس: مجنوں۔

○ دَرَسَ - دَرْسًا ہ: کو مٹانا، دھوڈالنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا، کو محو کرنا، ختم کرنا، (گندم وغیرہ) کو گاہنا۔ ہ علی: سے کچھ سیکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا۔ دِرس العلمَ: کسی استاد یا پروفیسر سے علم سیکھنا۔ - دُرُوسًا: مٹنا، محو ہونا، نام و نشان مٹنا، ختم ہونا۔

دَرَّسَ: تعلیم دینا۔ - ہ ہ: کو کوئی تعلیم دینا، کو کچھ پڑھانا۔ دَارَسَ ہ: کے ساتھ مل کر پڑھنا، مطالعہ کرنا، تَدَارَسَ ہ: باہم کسی چیز کا احتیاط سے مطالعہ کرنا۔ اِنْدَرَسَ: مٹ جانا، محو ہوجانا، نام و نشان نہ رہنا، ختم ہوجانا۔ دَرْس: مٹانا، محو کرنا، نام و نشان مٹانا، ناپید ہوجانا، جمع دُرُوس: مطالعہ، مطالعے، سبق (نصابی کتاب کا) باب، جماعت، جماعت کا وقت، عرصہ، مدت، وقت، لیکچر، (تجربہ کا دیا ہوا) سبق، اَلْقٰی دُرُوسًا عن: پر لیکچر دینا۔ اعطی دروسًا: سبق دینا۔ دُرُوسٌ مَنْزِلِیَّۃ: طالب علم کا گھر پر کرنے کا کام۔ ہوم ورک۔ دِرَاس: (گندم وغیرہ) گاہنا۔ دِرَاسۃ جمع دِرَاسات: مطالعہ۔ دراسة عالية: کالج کے مطالعے۔ دراسة ثانوية: ثانوی مدرسہ میں حاضری، ثانوی تعلیم، ہائی سکول کی تعلیم۔ دِراسة متوسطة: ثانوی تعلیم، ہائی سکول کی تعلیم، دِرَاسی: مطالعہ یا مطالعوں کے متعلق، مدرسی، مکتبی، تعلیمی، سکول کی، درسی، تربیتی، پڑھائی کے متعلق، اتالیقی۔ رسوم دراسية: ٹیوشن فیس۔ سنة دراسية: تعلیمی سال۔ دَرِیس: خشک کیا ہوا ترفل، عُمّالُ الدَرِیسَۃ: ریلوے سیکشن پر کام کرنے والے۔ دَرّاس جمع دَرّاسُون: (سرگرم) طالب علم۔ دَرّاسَۃ: بالی سے اناج نکالنے کا آلہ، غلہ کوب، وہ لکڑی جس سے کٹے ہوئے پودوں کو پیٹ کر اناج الگ کرتے ہیں، گاہنے کی مشین۔ حَصّادَۃ دَرّاسَۃ: فصل کاٹنے اور گاہنے کی مشین۔ دِرواس: ایک قسم کا بڑا کتا جس کے ہونٹ اور کان لٹکتے رہتے ہیں۔ مَدْرَسَۃ: جمع مَدَارِس۔ (مذہبی) مدرسہ، سکول۔ ـــ ابتدائية: جونیئر ہائی سکول۔ ـــ اوّلِیَۃ: بنیادی سکول، گریڈ سکول۔ ـــ ثانوية: ثانوی سکول، ہائی سکول ـــ تِجَارِیۃ: تجارتی کالج یا سکول۔ ـــ حربية: عسکری درسگاہ۔ ـــ داخلية: بورڈنگ سکول۔ ـــ عالية (عُلیا) کالج۔ مدرسة الفنون و الصنائع: صنعتی فنون کا سکول، عملی فن اور دستکاری کا سکول۔ مدرسة کُبریٰ: کالج۔ المدرسة القديمة: دقیانوسی افکارانہ تحریک۔ تَدْرِیس: پڑھانا، تعلیم دینا۔ هَيْئَۃُ التدریس: ٹیچنگ سٹاف، اساتذہ، معلمین (تعلیمی ادارہ کا) شعبہ، پروفیسر حضرات۔ دَارِس جمع دَوَارِس: مٹا ہوا، محو شدہ، نام و نشان مٹا ہوا، قدیم، پرانا، شکستہ، ٹوٹا پھوٹا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے (ہونے والا) تَجَدَّدَ دَارِسُہٗ: دوبارہ جی اٹھنا۔ مُدَرِّس جمع مُدَرِّسُون: مدرس، ٹیچر، معلم، انسٹرکٹر، لیکچرار۔ مُدَرِّسٌ مساعِد: معاون پروفیسر۔

درص: دَرِصَ - دَرَصًا ت الناقةُ: اونٹنی کا بڑھاپے کے سبب ٹوٹے ہوئے دانتوں والی ہونا، صفت: دَرْصاء الدَرْص والدِرْصُ جمع اَدْرَاص و دِرَصَۃ و دِرْصَان و دُرُوص و اَدْرُص (ح): چوہے، بلی، خرگوش وغیرہ کا بچہ۔ الدَرِص والدَرُوص (ح) تیز رفتار اونٹنی۔ اُمّ اَدْرَاص (ح): جنگلی چوہا، بلا (کہا جاتا ہے۔ وقعوا فی امّ ادراص: وہ ہلاکت میں پڑ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

درد: ۱۔ دَرِدَ - دَرَدًا: غضبناک ہونا صفت دَرِد، بے دانتوں کا ہونا، صفت اَدْرَد مونث دَرْدَاء جمع دُرْد۔ اَدْرَدَہٗ: کے دانتوں کو گرانا۔ اسنانَہٗ: کو پوپلا کر دینا۔ الدُّرْد (ح) اگلے دانتوں کے بغیر تھن دار جانور جن کے ناخن زمین کھودنے میں مدد دیتے ہیں جیسے چیونٹی خور۔ الدُّرْدِیّ من الزیت ونحوہ: تلچھٹ۔

۲۔ دَرْدَبَ الرجلُ: خوف زدہ کی طرح بھاگنا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا جیسے توقع ہو کہ اس کے پیچھے کچھ ہے۔ امرأۃ دَرْدَب رات میں آنے جانے والی عورت۔

۳۔ الدَّرْدَبِیس: مصیبت، بوڑھا یا بوڑھی، بہت بوڑھی عورت۔

۴۔ دَرْدَرَ الشیخُ او الصبیُّ البُسْرَۃَ: آہستہ آہستہ کھجور چبانا۔ الدُّرْدُر جمع دَرَادِر بچے کے دانت نکلنے کی جگہیں۔ الدَّرْدَار ڈھول کی آواز۔ — او المُرّان (ن) ایک زرد پھولوں اور خار دار پتوں والا بڑا درخت۔ الدُّرْدُود: بھنور۔

○ دَرِدَ - دَرَدًا پوپلا ہو جانا، کے دانت نکل جانا۔ اَدْرَد: پوپلا۔ دُرْدِی گاد، درد، تلچھٹ، ریزہ، فضلہ، دَرْدَبِیس۔ بدصورت بوڑھی عورت، بوڑھی عورت، چڑیل، ڈائن۔

○ دَرْدَرَۃ: پانی کا شور، چہچہاہٹ، طفلانہ گفتگو، ہرزہ سرائی۔ دُرْدُور: گرداب، بھنور، ورطہ، چکر

○ دَرْدَشَۃ: طفلانہ گفتگو، ہرزہ سرائی، بے کار باتیں۔

درز: ۱۔ دَرِزَ - دَرَزًا: دنیا کی نعمتوں اور لذتوں پر قادر ہونا۔ الدَّرَز جمع دُرُوز: دنیا کی نعمتیں اور لذتیں۔ اُمّ دَرْزَۃ: دنیا (کی کنیت)

۲۔ دَرَزَ دَرْزًا الثوبَ: کپڑا باریک سینا۔ — الخیاطُ الدُّرُوزَ: درزی کا سیون کو باریک سینا۔ الدَّرْز (مص) جمع دُرُوز: مغزی، گوٹ، سیون۔ اولاد دَرْزَۃ: درزی لوگ، جولاہے۔ الدَّرْزِی: درزی۔

۳۔ بناتُ الدُّرُوز: جوئیں اور ان کے انڈے۔ اولادُ دَرْزۃ: کمینے لوگ۔ الدُّرْزِی و الدَّرْزِیّ جمع دَرْزَۃ نیز دُرُوز دُرْزِیۃ نامی جماعت سے منسوب۔

○ دَرَزَ: سینا، ٹانکے لگانا، بخیہ کرنا۔ دَرْز جمع دُرُوز: سیون، گوٹ، مغزی، سنجاف، سلائی۔ دُرْزِیّ جمع دُرُوز: دُرُوز: فرقہ دروز، لبنان کے قریب مسلمانوں کا ایک مذہبی فرقہ جس کا بانی اسمٰعیل الدروزی تھا۔ جبل الدروز: جنوبی شام میں دروزیوں کا پہاڑی وطن۔

درس: دَرَسَ - دُرُوسًا الرسمُ: نشان مٹنا، صفت دارِس جمع دَوَارِس۔ — الشیءُ: کا اثر جاتا رہنا۔ دَرَسًا الرسمَ: نشان کو مٹا دینا۔ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ دَرَسَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہو جانا۔ اِنْدَرَسَ الرسمُ: نشان کا مٹنا۔ الخبرُ: خبر ناپید ہونا۔ الدَّرْس (مص) جمع دُرُوس: پوشیدہ راستہ۔ — و الدِّرس جمع اَدْرَاس و دِرْسَان و الدَّرِیس: بوسیدہ کپڑا۔ المَدْرُوس (مفع): بوسیدہ کپڑا۔

۲۔ دَرَسَ - دَرْسًا الناقۃَ: اونٹنی کو سدھانا۔ دَرَّسَ البعیرَ: اونٹ کو سدھانا۔ الدُّرْسَۃ: ریاضت، ورزش

۳۔ دَرَسَ - دَرْسًا و دِرَاسَۃً الکتابَ او العلمَ: کتاب یا علم کو یاد کرنے کیلئے متوجہ ہونا۔ دَرَّسَ و اَدْرَسَ ہُ الکتابَ: کو کتاب پڑھانا۔ دَارَسَ مُدَارَسَۃً و دِرَاسًا الکتبَ: کتابیں پڑھنا۔ ہٗ: ایک دوسرے کو پڑھ کر سنانا، باہم پڑھنا۔ تَدَارَسَ الطلبۃُ الکتابَ: طلبہ کا کتاب مل کر پڑھنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَدَارَسَ الکتابَ و اِدَّارَسَہٗ: اس نے کتاب پڑھی۔ دُرُوسُ الأشیاء: انسانی جسم، حیوانات، نباتات، آلات، معدنوں، پانی، ہوا وغیرہ کے مطالعے۔ الدَّرَّاس: بہت پڑھنے والا۔ المَدْرَسۃ: طلبہ کے تعلیم پانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ ھذہ مدرسۃُ النِعَم: یہ نعمتوں کا راستہ ہے۔ المِدْرَس: پڑھنے کی کتاب، پڑھنے کی جگہ۔ المِدْرَاس: تورات پڑھنے کی جگہ (گھر)۔

۴۔ دَرَسَ - دَرْسًا و دِرَاسًا الحنطۃَ: گیہوں کو گاہنا، الدَّرْس (مص) جمع دُرُوس: سبق طریقٌ مَدْرُوس: چلتا ہوا راستہ۔ فراش مَدْرُوس: بچھا ہوا فرش۔

۵۔ دَارَسَ مُدَارَسَۃً و دِرَاسًا الذنوبَ: گناہوں کا ارتکاب کرنا۔

۶۔ الدَّرْس و الدِّرس جمع اَدْرَاس و دِرْسَان و الدَّرِیس: اونٹ کی دم۔ المَدْرُوس: مجنوں۔

○ دَرَسَ - دَرْسًا ہ: کو مٹانا، دھو ڈالنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا، کو محو کرنا، ختم کرنا، (گندم وغیرہ) کو گاہنا۔ ہ علی: سے کچھ سیکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا۔ دَرَسَ العلمَ: کسی استاد یا پروفیسر سے علم سیکھنا۔ دُرُوسًا: مٹنا، محو ہونا، نام و نشان مٹنا، ختم ہونا۔ دَرَّسَ: تعلیم دینا۔ — ہ ہ: کو کوئی تعلیم دینا، کو کچھ پڑھانا۔ دَارَسَ ہ: کے ساتھ مل کر پڑھنا، مطالعہ کرنا، تَدَارَسَ ہ: باہم کسی چیز کا احتیاط سے مطالعہ کرنا۔ اِنْدَرَسَ: مٹ جانا، محو ہو جانا، نام و نشان نہ رہنا، ختم ہو جانا۔ دَرْس: مٹانا، محو کرنا، نام و نشان مٹانا، ناپید ہو جانا، جمع دُرُوس: مطالعہ، مطالعے، سبق (نصابی کتاب کا) باب، جماعت، جماعت کا وقت، عرصہ، مدت، وقت، لیکچر، (تجربہ کا دیا ہوا) سبق، اَلْقَی دُرُوسًا عن: پر لیکچر دینا۔ اعطی دروسًا: سبق دینا۔ دُرُوسٌ مَنْزِلِیَّۃ: طالب علم کا گھر پر کرنے کا کام۔ ہوم ورک۔ دِرَاس: (گندم وغیرہ) گاہنا۔ دِرَاسۃ جمع دِرَاسات: مطالعہ۔ دراسۃ عالیۃ: کالج کے مطالعے۔ دراسۃ ثانویۃ: ثانوی مدرسہ میں حاضری، ثانوی تعلیم، ہائی سکول کی تعلیم۔ دِراسۃ متوسطۃ: ثانوی تعلیم، ہائی سکول کی تعلیم، دِرَاسی: مطالعہ یا مطالعوں کے متعلق، مدرسی، مکتبی، تعلیمی، سکول کی، درسی، تربیتی، پڑھائی کے متعلق، اتالیقی۔ رسوم دراسیۃ: ٹیوشن فیس۔ سنۃ دراسیۃ: تعلیمی سال۔ دَرِیس: خشک کیا ہوا ترفل، عُمَّالُ الدَّرِیسَۃ: ریلوے سیکشن پر کام کرنے والے۔ دَرَّاس جمع دَرَّاسُون: (سرگرم) طالب علم۔ دَرَّاسَۃ: بالی سے اناج نکالنے کا آلہ، غلہ کوب، وہ لکڑی جس سے کٹے ہوئے پودوں کو پیٹ کر اناج الگ کرتے ہیں، گاہنے کی مشین۔ حَصَّادۃ دَرَّاسَۃ: فصل کاٹنے اور گاہنے کی مشین۔ دِرواس: ایک قسم کا بڑا کتا جس کے ہونٹ اور کان لٹکتے رہتے ہیں۔ مَدْرَسَۃ: جمع مَدَارِس۔ (مذہبی) مدرسہ، سکول۔ — ابتدائیۃ: جونیئر ہائی سکول۔ — اوّلیۃ: بنیادی سکول، گریڈ سکول۔ — ثانویۃ: ثانوی سکول، ہائی سکول — تِجاریۃ: تجارتی کالج یا سکول۔ — حربیۃ: عسکری درسگاہ۔ — داخلیۃ: بورڈنگ سکول۔ — عالیۃ (عُلیا) کالج۔ مدرسۃ الفنون و الصنائع: صنعتی فنون کا سکول، عملی فن اور دستکاری کا سکول۔ مدرسۃ کُبری: کالج۔ المدرسۃ القدیمۃ: دقیانوسی یا افکار تحریک۔ تَدْرِیس: پڑھانا، تعلیم دینا۔ ہیئۃ التدریس: ٹیچنگ سٹاف، اساتذہ، معلمین (تعلیمی ادارہ کا) شعبہ، پروفیسر حضرات۔ دَارِس جمع دَوَارِس: مٹا ہوا، محو شدہ، نام و نشان مٹا ہوا، قدیم، پرانا، شکستہ، ٹوٹا پھوٹا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے (ہونے والا) تَجَدُّدَ دَارِسۃ: دوبارہ جی اٹھنا۔ مُدَرِّس جمع مُدَرِّسُون: مدرس، ٹیچر، معلم، انسٹرکٹر، لیکچرار۔ مُدَرِّس مساعد: معاون پروفیسر۔

درص: دَرِصَ - دَرَصًا ت الناقۃُ: اونٹنی کا بڑھاپے کے سبب ٹوٹے ہوئے دانتوں والی ہونا، صفت: دَرْصاء الدَّرْص و الدِّرص جمع اَدْرَاص و دِرَصَۃ و دِرْصَان و دُرُوص و اَدْرُص (ح): چوہے، بلی، خرگوش وغیرہ کا بچہ۔ الدَّرِص و الدَّرُوص (ح) تیز رفتار اونٹنی۔ اُمّ اَدْرَاص (ح): جنگلی چوہا، بلا (کہا جاتا ہے۔ وقعوا فی اُمّ ادراص: وہ ہلاکت میں پڑ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گئے۔) مصیبت۔

درع: ادرَعَ ـ دَرَعًا الفرسُ وغیرُہٗ: گھوڑے وغیرہ کا کالے سر اور سفید بدن ہونا صفت اَدْرَع مؤنث دَرْعاء جمع دُرْع۔ اَدْرَعَ الشَھرُ: مہینے کا آدھے حصہ سے گذر جانا۔ الدُرَع و الدُرَع: قمری مہینہ کی سولہویں، سترہویں اور اٹھارویں راتیں۔ الدَرْعاء جمع دُرْع من اللیالی: وہ راتیں جن میں چاند صبح کے وقت نکلتا ہے۔

۲۔دَرَعَ ـ دَرْعًا الشاۃَ: بکری کی کھال اس کی گردن کی طرف سے اتارنا۔ الرقبۃَ او الیدَ: گردن یا ہاتھ کا جوڑ اکھاڑنا۔اِنْدَرَعُ العظمُ: ہڈی کا گوشت سے جدا ہونا۔

۳۔دُرِعَ الزرعُ: کھیتی کا کچھ حصہ کھالیا جانا۔ ۔ الماءُ: پانی کے قریب کی ہر شے کو کھا لیا جانا۔ اَدْرَعَ الماءُ: پانی کے قریب ہر چیز کا کھالیا جانا۔ماءٌ مُدْرَعٌ و مُدَرَّعٌ: پانی جس کے ادر گرد کی چراگاہ چرلی گئی ہو۔ رَوْضَۃٌ مُدْرِعۃٌ: وہ باغ جس کے ارد گرد کو کھالیا گیا ہو۔

۴۔دَرَّعَ ہٗ: کو زرہ پہنانا۔المراۃَ: عورت کو قمیض پہنانا۔ اَدْرَعَ و اِدَّرَعَ: زرہ پہننا۔ ۔ اللیلَ: رات کی تاریکی میں داخل ہونا اور اسے اپنا پردہ بنانا۔ کسی چیز کے اندر کوئی چیز داخل کرنا۔ تَدَرَّعَ: زرہ پہننا۔اِنْدَرَعَ البطنُ: پیٹ کا بھرنا۔الدِرْع جمع دُرُوع و اَدْرُع و دِرَاع تصغیر دُرَیْع: زرہ (مؤنث ہے کبھی مذکر بھی مستعمل ہوتی ہے۔) چھوٹا کپڑا جو کمسن بچی گھر میں پہنتی ہے۔ دِرْعُ المرأء جمع اَدْراع: عورت کی قمیض یا کپڑا جو گھر میں پہنے (مذکر ہے۔)الدَّارِع (فا): زرہ پوش۔ الدَارِعۃ (دارع کا مؤنث) جمع دَوَارِع (اع): فولادی جنگی جہاز۔ الدُرْعَۃ جمع دُرَع: چھلکے کی طرح ایک چیز جس کو درخت خرما کے ارد گرد لگا دیا جاتا ہے۔ المِدْرَعَۃ عند الیھود: علمائے یہود کے پہننے کا ایک کتانی کپڑا۔المُدَرَّع (ح): ہڈی کے خول والا ایک قسم کا جانور۔المُدَرَّعۃُ (ع): فولادی جنگی جہاز۔الدُرَّاعۃ جمع دَرَارِیع و المِدْرَعۃ جمع مَدَارِع: آگے سے کھلنے والا جبہ۔ الدِرْعِیَّۃ جمع دَرَاعِیّ: زرہ کو چھیدنے والا نیزہ۔

۵۔دَرَّعَ ہٗ: کا گلا گھونٹنا۔الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔

۶۔دَرَّعَ الرجلُ: چلنے میں آگے بڑھنا۔اِنْدَرَعَ فی السیر: چلنے میں آگے بڑھنا۔اندرع یفعل کذا: وہ ایسا کرنے لگا۔القمرُ من السحاب: چاند کا بادل سے باہر نکل آنا۔

۷۔الدَرِع من العُشب: تازہ گھاس۔

○ دَرَّعَ: مسلح کرنا۔ ـہ کو بکتر بند کرنا، کو بکتر سے مسلح کرنا۔ تَدَرَّعَ و اِدَّرَعَ: مسلح ہونا، زرہ بکتر پہننا۔دِرْع مذکر، مؤنث جمع دُرُوع و اَدْرُع و اَدْراع: زرہ، زرہ بکتر جوشن، چار آئینہ، اسلحہ، ہتھیار، (جمع اَدْراع) عورتوں کا زیر جامہ۔ دَرَّاعَۃ جمع دَرّاعات: بکتر بند جنگی جہاز۔ دُرَّاعۃ جمع دَرَارِیع: باہر کا ڈھیلا جبہ جو سامنے سے چاک ہو۔ دارِع: زرہ پوش، آہن پوش، بکتر بند، دارِعۃ جمع دَوَارِع: بکتر بند جنگی جہاز۔مُدَرَّع: بکتر بند، جنوبی امریکہ کا ایک جانور جس پر ہڈی کا خول ہوتا ہے۔قوۃٌ مُدَرَّعۃ: ٹینک دستہ یا رسالہ۔سَیّارۃٌ مُدَرَّعۃ: بکتر بند گاڑی۔ مشاۃ مدرعون: بکتر بند پیدل فوج۔مُدَرَّعۃ جمع مُدَرَّعات: بکتر بند جنگی جہاز۔فولادی جنگی جہاز۔

درف: ۱۔الدَرْف: سایہ، پناہ، جانب۔الدَرْفَۃ: دروازے کا ایک پٹ (عوامی زبان میں۔ فصیح الصِفْق ہے۔

۲۔دَرْفَقَ و اِدْرَنْفَقَ فی سیرہ: تیز چلنا۔

○ دَرْف: جانب، بازو، حفاظت۔دَرْفَۃ: کھڑکی یا دروازے کا ایک پٹ۔

○ دَرْفِیل: ڈالفن (ایک قسم کی مچھلی)

درق: ادرَقَ ـ دَرْقًا فی المشی: تیز چلنا۔دَرَّقَ ہٗ: کو نرم و ملائم کرنا۔الدَرْق: ہر سخت چیز۔ الدَرَقَۃ جمع دَرَق: چمڑے کی ڈھال۔الدَوْرَق جمع دَوَارِق: دو دستے والا بڑا لوٹا (فارسی لفظ) عابدوں اور زاہدوں کے پہننے کی ٹوپی اور پہننے والوں کو دَوْرَقِیُّون کہا جاتا ہے۔الدَرَّاق واحد دَرَّاقَۃ (ن): میوہ کا ایک درخت جس کا گودا مزیدار ہوتا ہے۔ اس پر ایک مخملی باریک چھلکا ہوتا ہے۔ اسے الدُرَّاقن بھی کہا جاتا ہے۔ اس درخت کا پھل۔ شراب۔الدِرْیَاق: تریاق۔ الدَرْقاء: بادل۔

۲۔دَرْقَلَ الرجلُ: تیزی سے گزرنا، رقص کرنا، ناچنا، ناز سے چلنا۔ الدِرْقَل: ریشمی کپڑا۔

○ دَرَقَۃ: (چمڑے کی) ڈھال۔دَرَق: سپری۔ غُدَّہ، سپر نما غُدَّہ (Thyroid gland) دَرَقِی: ڈھال کی شکل کا، ڈھال کا سا۔ الغدۃ الدَرَقیہ: سپری غدہ، سپر نما غدہ۔

○ دُرَّاق: آڑو، شفتالو، آڑو کا درخت۔

درك: ۱۔ دَرَكَ المطرُ: بارش کا پے درپے برسنا۔ دَارَكَ مُدَارَكَۃً و دِرَاکًا: ۔ سے لاحق ہونا، جاملنا۔ الطعنَ: پے درپے نیزہ مارنا۔ ایک کو دوسرے کے پیچھے کرنا۔ یکے بعد دیگر کرنا۔اَدْرَكَ الشیءَ: ۔ سے مل جانا، لاحق ہونا۔تَدَارَكَ القومُ: ایک کا دوسرے سے آملنا۔ اسی معنی میں اِدَّارَكَ بھی ہے۔ ۔ الخطأَ بالصواب: غلطی کی درستی کرنا (کہا جاتا ہے تَدَارَکَہُ اللہ برحمتہ: اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لے) ۔ مافاتَ: ہاتھ سے نکلی ہوئی بات کی تلافی کرنا۔ کہا جاتا ہے تَدَارَكَ القومَ: اس نے قوم کی تلافی کی۔اِدَّرَكَ ہٗ: ۔ سے جاملنا، لاحق ہونا۔اِسْتَدْرَكَ الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے اِسْتَدْرَكَ النجاۃَ بالفرار: اس نے بھاگ کر نجات حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ الخطأَ بالصواب: غلطی کی درستی اور اصلاح کرنا۔ ۔ مافاتَ: ہاتھ سے نکلی ہوئی بات کی تلافی کرنا۔علیہ القول: کسی کی بات میں غلطی نکالنا۔الدَرْك و الدَرَك: چیز کی انتہائی گہرائی (کہا جاتا ہے: بَلَغَ الغَوَّاصُ دَرَكَ البحر: غوطہ خور سمندر کی انتہائی گہرائی میں پہنچا۔) لاحق ہونا۔ (کہا جاتا ہے فرسٌ دَرَكُ الطریدۃ: بھاگے ہوئے جانور تک پہنچنے والا گھوڑا) تاوان۔ کہا جاتا ہے۔ مالحقك من دَرَكٍ فعَلَیَّ خلاصُہٗ: جو تاوان تم پر قائم ہو اس اور اس کا ذمہ دار میں ہوں۔دَرَاكِ: اسم فعل بمعنی: اَدْرِكْ۔ الدِرَاك: متصل۔ کہا جاتا ہے سیرٌ دِرَاكٌ: جاری سیر۔الدَرَکَۃ جمع دَرَکات: درجہ۔ درکہ اور درجہ میں فرق یہ ہے تنزلی کی صورت میں درکہ بولتے ہیں اور ترقی کے موقعہ پر درجہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔الجنۃ دراجات و النار دَرَکات: جنت ترقی کے مدارج اور جہنم نیچے سے نیچے جانے سے عبارت ہے۔الدَرِیکَۃ: بھگائی ہوئی۔الاِسْتِدْرَاك (مص): پچھلی گفتگو سے پیدا شدہ وہم کا ازالہ۔

۲۔اَدْرَكَ الشیءُ: چیز کا اپنے وقت پر پہنچنا۔الثمرُ: پھل کا پکنا۔الولدُ: لڑکے کا بالغ ہونا۔

۳۔اَدْرَكَ المسالۃَ: مسئلہ کو جان لینا۔الشیءَ ببصرہ: چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔الإدْرَاك (مص): قوت مدرکہ، ادارک کی قوت۔ الدَرَّاك: مرغوب چیز کو پالینے والا۔ رجلٌ مُدْرِکَۃٌ: تیز ادراک والا۔ تاء مبالغہ کی ہے۔ تانیث کی نہیں۔ المُدْرِکات و المَدَارِك: حواس خمسہ۔مَدَارِكُ الشرع: ایسے مقامات جہاں سے احکامات شرعیہ کا پتہ چلے اور نصوص سے استدلال کیا جائے۔

۴۔اَدْرَكَ بثارہ: خون کا بدلہ لے لینا۔الدَرْك و الدَرَك: حاجت پانا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۵- رجالُ الدَرْكِ: فوجی قوت جن کے سپرد امن عامہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسے جندرمہ کہا جاتا ہے۔ ایک کو دَرْکِی کہا جاتا ہے۔ اور دَرَکِّی بھی۔

٦- الدَرْبُکَة: بھیڑ، انبوہ- الدَرَابُکَّة (مو): ایک قسم کا باجہ۔ اسے دِرْبُکَّة بھی کہا جاتا ہے۔

○ درك: بارش کا برستار ہنا- اَدْرَكَ ہ/ھ: تک جا پہنچنا، کو جا پکڑنا، حاصل کر لینا، کو جالینا، پہنچ کر پکڑ لینا، سے بہت آگے نکل جانا، دوڑ میں دوسرے سے آگے نکل جانا، کے برابر ہو جانا۔ ہ: برقرار رکھنا، اسی طرح جاری رکھنا۔ اَدْرَكَ ہ: کو حاصل کرنا، تک پہنچنا، (کسی جگہ) پہنچنا۔ ہ/ ہ: کو پانا، پکڑنا، کو جالینا، کو جا پکڑنا، کے برابر ہونا۔ ہ: کو اچانک، اتفاقاً پالینا (موت کا) کسی کو آلینا۔ ھ: کو حاصل کرنا، کو سمجھنا، پوری طرح سمجھنا، کا ادراک کرنا، کو دیکھنا، سمجھنا سے واقف ہونا، آگاہ ہونا، باخبر ہونا۔ (پھل وغیرہ کا) پکنا، لڑکے کا بالغ ہونا- تَدَرَّکَت الشمسُ الی المَغیب: سورج ڈوبنے کے لئے تیار ہوا۔ تَدَارَكَ: ایک دوسرے تک پہنچ کر پکڑنا، کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہنا، مسلسل، یا پے در پے کرتے رہنا۔ ھ: کے سامنے ہونا، کی رقم ادا کرنا، کو دور کرنا، کو روکنے کے اقدامات کرنا، کو ترتیب سے رکھنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا، کی تلافی کرنا، (نقصان وغیرہ) کی تلافی کرنا، کا معاوضہ ادا کرنا، کر ہرجانہ یا تاوان دینا- اِسْتَدْرَكَ ھ: کی تصحیح کرنا، کو ٹھیک کرنا، ترتیب سے رکھنا، سیدھا کرنا، نقصان، غلطی وغیرہ) کی تلافی کرنا، کا ازالہ کرنا، کا معاوضہ ادا کرنا، (گم شدہ، چیز) مہیا کرنا، (واقعہ) کی پیش بندی کرنا، دور کرنا- دَرَكَ: حصول، تحصیل، کامیابی، تکمیل، سرانجام دہی، جا پکڑنا، پولیس (جمع اَدْرَاك): تہ، پیندا، نچی ترین سطح۔ دَرَکِیّ: پولیس مین، سپاہی، دَرَکَة۔ نیچی ترین سطح، جمع درکات: اترتے قدمچے۔ جیسے دَرَكَاتُ الموت۔ دَرَّاك: بہت زیادہ تکمیل کرنے والا، کامیاب، قابل، لائق، کارگزار۔ مَدَارِكَ: ذہنی صلاحیتیں، دماغی قوتیں، ذہانت، عقلی صلاحیتیں، ادراک، بصیرت، نکتہ۔ المدارك الخمس: حواس خمسہ- دِرَاكاً: اکثر، ہمیشہ، مسلسل، لگاتار، پے در پے، بلا رکاوٹ- اِدْرَاك: پہنچنا، حصول، کامیابی، تکمیل، احساس، ادراک، بصیرت، نکتہ رسی، فہم، آگہی، واقفیت، شعور، سمجھ، پکڑ، گرفت، عقل، ذہانت، فراست، بلوغت، بلوغت کی عمر، سن بلوغ، جوان ہونا۔ سِنُّ الادراك: سن شعور- تَدَرُّك: تدریج، زوال، انحطاط- اِسْتِدْرَاك: چارہ سازی، اصلاح، تدبیر، دادرسی، معاوضہ، بدلہ، درستی، مرمت، عوض، تاوان، تلافی، سدھار، ترمیم، تصحیح- مُدْرَك: عقلی، معقول، مطابق عقل، عقل سے مزین، ذی شعور، عاقل، فہیم، دانشمند، جنسی طور پر بالغ، مونچھ داڑھی والا، بالغ- مُدْرَکات: کامیابیاں آگہیاں، جامد آراء، مسلمہ تصورات مِدْرَك: بڑی کریں۔ (سامان اٹھانے کی)۔

درم: ١- دَرِمَ-دَرَمًا العضوُ: گوشت کا عضو کی ہڈی کو چھپالینا۔ صفت دَرِم و دَارِم و دَرِيم و اَدْرَم۔ ـ ت الساقُ: ہموار ہونا- دَرَّمَ اَظْفَارَهُ: اپنے ناخن کاٹنے کے بعد ہموار کرنا- درعٌ دَرِمَة: نرم یا چکنی متوازن زرہ- درعٌ مُدَرَّمَة: نرم چکنی اور ہموار زرہ۔

٢- دَرِمَ-دَرَمَات الاسنانُ: دانتوں کا گرنا یا گرنے کے قریب ہونا- البعیرُ: اونٹ کا دانت گرانا- اَدْرَمَ الصبیُّ: نئے دانت نکلنے کے لئے بچہ کے دانت ہلنا صفت: اَدْرَم مؤنث دَرْمَاء۔

٣- دَرَمَ- دَرْمًا و دَرَمًا و دَرَمَانًا و دَرَامَةً القنفذُ والارنب و نحوهما: خارپشت یا خرگوش وغیرہ کا چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔ اسی طرح دَرَمَ الشیخُ و الصبیُّ: بوڑھے اور بچے کا چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا- دَارَمَ مُدَارَمَةً: بوجھل ہوتے ہوئے تیز چلنا- الدَرِمَة۔ دَرِم کا مؤنث (ح) خرگوش- الدَرَّام مؤنث دَرَّامَة: بدرفتار، پستہ قد- الدَرَّامة (ح): خارپشت، سہی، خرگوش۔

٤- الدَرْمَاء (ن): سرخ پتوں والا ایک پودا- الدَرَامَا: ڈرامہ

٥- دَرْمَسَ: خاموش رہنا- الشيءَ: چیز کو چھپانا۔

٦- دَرْمَصَ دَرْمَصَةً: خاکساری کرنا۔

٧- الدَرْمَق: سفید آٹا، میدہ۔

٨- دَرْمَكَ: دوڑنا- البناءَ: عمارت کو چکنا کرنا- الدَرْمَك: نرم و ملائم مٹی۔ سفید آٹا، میدہ- الدُرْمُوك: غالیچہ۔

○ دَرَمَ: دانتوں کا گرنا- دَرَّمَ ہ: ناخن کاٹنا، تراشنا، ناخن کاٹ کر درست کرنا۔

درن: ١- دَرِنَ-دَرَنًا الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا صفت: دَرِن و مِدْرَان مؤنث دَرِنَة و مِدْرَان۔ اَدْرَنَ الثوبَ: کپڑے کو میلا کرنا۔ الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا- الدَرَن جمع اَدْرَان: میل کچیل۔

٢- اَدْرَنَ ت الماشیةُ: مویشی کا پرانی گھاس چرنا- الدَرِين: پرانی خشک گھاس جس کو جانور نہ چریں، بوسیدہ کپڑا، اُمّ دَرِين: قحط زدہ زمین۔

٣- الدَرَّان (ح): لومڑی- اُمُّ دَرَن: دنیا۔

٤- الدُرْنُوك و الدِرْنِيك جمع دَرَانِيك: غالیچہ، قالین۔ رواں دار کپڑا۔

○ دَرِنَ-دَرَنًا: گندہ ہونا، میلا کچیلا ہونا- اَدْرَنَ: گندا ہونا، میلا کچیلا ہونا- تَدَرَّنَ: تپ دق میں مبتلا ہونا- دَرَن جمع اَدْرَان: گندگی، میل کچیل، گلٹیاں، پھنسیاں، دانے، دق کے دانے، سل، تپ دق، دق- دَرَن رئوِیّ: پھیپھڑوں کی دق- دَرَنَة جمع دَرَنَات: گلٹی، پھنسی، دانہ، دق کا ......، چھوٹا گومڑا، دنبل، رسولی، گرہ، دَرَنِی: دق (کے دانے) کا سا، دق کا مارا ہوا، دق میں مبتلا۔ تَدَرُّن: تپ دق، دق، سل- تَدَرُّنٌ رئوِی و تدرن الرئة: پھیپھڑوں کی دق۔ تَدَرُّنِيّ: دق کا مارا ہوا، دق میں مبتلا- مُتَدَرِّن: دق سے متاثر، دق کی پھنسیوں والا۔

دره: ١- دَرَهَ-دَرْهًا علیهم: پر اچانک آجانا- دَارِهَاتُ الدهر: مصائب زمانہ- التُدْرَه: وضع، مدافعت کہا جاتا ہے- هو ذُو تُدْرَءٍ: وہ اپنے دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑتا ہے۔

٢- دَرَهَ-دَرْهًا لهم و عنهم: کی طرف سے مدافعت کرنا، کی حفاظت کرنا- المِدْرَه جمع مَدَارِه: سردار، قوم کا لیڈر، نمائندہ- التُدْرَه: دفع کرنا، مدافعت کرنا،

٣- دَرَهَ-دَرْهًا علی کذا: پر کو زیادہ کرنا۔

٤- دَرْهَمَ ت الخُبَّازی: خبازی کا درہموں کی طرح گول پتے نکالنا- دُرْهِمَ الرجلُ: بہت درہموں والا ہونا- الدِرْهَم و الدِرْهِم والدِرْهَام جمع دَرَاهِم: چاندی کا سکہ (یونانی لفظ) مولدین کے نزدیک الدَرَاهِم کے معنے مطلقاً نقود کے ہیں- المُدَرْهَم: بہت درہموں والا، مالدار۔

٥- اِدْرَهَمَّ: عمر رسیدہ ہونا۔ بڑھاپے کے باعث کے دانتوں کا گرنا۔ صفت مُدْرَهِمّ۔

٦- اِدْرَهَمَّ البصرُ: نظر کا کمزور ہونا۔ تاریک ہونا۔

○ مِدْرَه جمع مَدَارِه: ترجمان، نمائندہ

○ دِرْهَم جمع دَرَاهِم: درہم (ایک سکہ کا نام) دَرَاهِم: نقد، سکے، نوٹ، روپیہ پیسہ، دولت- دُرَيْهِمَات: پیسں کے سکے۔ چند درہم۔

درویش: الدَرْوِيش: راہب، عابد، زاہد (فارسی لفظ ہے جس کے معنی فقیر کے ہیں۔)

○ دِرْوَة جمع دروات: حفاظتی پردہ یا دیوار، منڈیر۔

○ دِرْوَاس: ایک قسم کا بڑا کتا جس کے ہونٹ اور کان لٹکتے رہتے ہیں۔

○ دَرْوِيش جمع دَرَاوِيش: درویش

دری: ١- دَرَی-دَرْيًا و دِرْيًا و دَرْيَةً و دِرْيَةً و دَرَيَانًا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

و دِرْیانًا و دُرِیًّا و دِرایَۃً (یہ آخری مصدر سب سے زیادہ مستعمل ہے۔) الشیءَ بالشیءِ: کو سے جاننا۔ اَدْرَی الرجلَ بکذا: کو سے باخبر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ما اَدْرَاکَ و ما یُدْرِیکَ: تم نہیں جانتے۔

۲۔ دَرَی-دَرْیًا و تَدَرَّی و ادَّرَی الصیدَ: شکار کو دھوکا دینا۔ دَارَی مُدَارَاۃً: سے باہم نرمی کرنا، کو دھوکا دینا۔

۳۔ دَرَی - دَرْیًا الرأسَ: سر میں کنگھی سے کھجانا۔ المِدْرَی و المِدْرَاۃ والمِدْرِیَۃ جمع مَدَارٍ و مَدَارَی: کنگھی، سینگ۔

○ دَرَی-درایۃً ہ / ب: کو جاننا، کا علم ہونا، سے آگاہ ہونا، باخبر ہونا، واقف ہونا، کو سمجھنا، کا ادراک کرنا، و ما یلیری الاوا: اچانک وہاں تھا۔ دَارَی ہ: کی خوشامد کرنا، سے خوشامد یا شریفانہ تواضع سے پیش آنا کو پھلانا، بہلانا، پیار سے یا خوشامد سے منانا، سے چاپلوسی سے کام نکالنا، کو دھوکا دینا، بیوقوف بنانا، سے منافقت کرنا۔ - ہ: کو چھپانا، پر نقاب ڈالنا۔ ڈھانپنا۔ اَدْرَی ہ ب: کو کچھ بتانا یا کے بارے میں بتانا، کو سے مطلع کرنا، کوئی نصیحت کرنا، کوئی اطلاع دینا۔ و ما اَدْرَاکَ ما و ما اَدْرَاکَ ب: کیا تم پوری طرح سمجھتے ہو کہ...... کیا ہے۔ تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ سے کیا مراد ہے؟ تَدَارَی: اپنے آپ کو چھپانا۔ دِرَایَۃ: علم، واقفیت، دانش آگہی، شناسائی، جان پہچان، اَدْرَی: زیادہ باخبر، زیادہ ذہین، زیادہ جاننے کے قابل، بہتر آگاہ۔ سب کو بہتر جاننے والا سے بہتر واقف۔ لا اَدْرِی: متشکک، مذہب یا روایات کی صحت کو شک وشبہ کی نظر سے دیکھنے والا۔ مُدَارَاۃ: ملنساری، یار باشی، صحبت، خوش خلقی، مروت، دَارٍ ب: سے آگاہ، واقف، مطلع، محرم، مِدْرَی و مِدْرَۃ = مِدرٰی و مِدْرَاہ جمع مَدَار: کشتی چلانے کا بانس۔

○ دِرْیَاق: تِرْیَاق۔

○ دَرِینَۃ: درجن۔

درز: دَرَزَ-دَرْزًا ہ: کو دفع کرنا، ہٹانا۔

دسّ ۱۔ دَسَّ-دَسًّا و دِسِّیسَی الشیءَ تحت التراب و فیہ: کسی چیز کو مٹی کے نیچے چھپانا۔ اِنْدَسَّ فی: ہونا۔ دھنسنا۔ المِدَسّ: زخم کی گہرائی معلوم کرنے کا آلہ۔ الدَّسِیس جمع دُسُس: مٹی میں چھپائی ہوئی چیز، راکھ میں بھونی ہوئی شے۔ الدَّسَّاس (ح): سرخ رنگ کا چھوٹا سانپ جو مٹی میں چھپا رہتا ہے۔ ضرب المثل ہے۔ العِرقُ دَسَّاس: باپ دادا کی عادتیں بیٹوں میں آ کر رہتی ہیں۔ الدَّسَّاسۃ: سانپ کی چھتری۔ (ح) سرخ رنگ کا چھوٹا سانپ جو مٹی میں چھپا رہتا ہے۔ (ح) لمبا سرخ رنگ کا کیڑا۔

۲۔ دَسَّ-دَسًّا و دِسِّیسَی علیہ: کے خلاف سازش کرنا، خفیہ حیلہ کرنا۔ دَسَّسَ تَدْسِیسًا: بمعنی چھپانا، دھنسانا (تشدید مبالغہ کے لئے ہے) کہا جاتا ہے۔ دَسَّی جیسے کہا جاتا ہے۔ تَظَنَّی تَظَنَّنَ سے۔ تَدَسَّسَ بہ الی اعدائہ: کے دشمنوں کے ساتھ ملکر اس کے خلاف سازش کرنا۔ الدَّسِیس جمع دُسُس: وہ شخص جس کو خبریں لانے کے لئے بھیجا جائے۔ الدُّسُس: کاموں میں دکھاوا کرنے والے، ریاکار لوگ۔ الدَّسِیسَۃ: چھپا ہوا مکر، پوشیدہ دشمنی۔ الدَّاسُوس: جاسوس۔

○ دَسَّ-دَسًّا ہ فی: کو میں رکھنا، کھسکانا، دھکیلنا، سرکانا، دھکا دینا، ڈالنا، گھسیڑنا، داخل کرنا، ٹھونسنا، کو (زمین) میں دفن کرنا۔ ہ / ب فی: کو میں چوانا، آہستہ سے ٹپکانا، بٹھانا، کو کے اندر انڈیلنا۔ السُّمَّ لِ: کو خفیہ طور پر زہر دینا۔ ہ فی: کی میں آمیزش کرنا، کو غیر قانونی طور پر میں درج... ہ بین: کو میں چھپا دینا، غائب کر دینا، ہ [illegible] رنا، میں تحریف کرنا، بدنیتی سے الحاق کرنا۔ — علی / ل: کے خلاف سازش کرنا، سازباز کرنا، ریشہ دوانی کرنا۔ دَسَّ الدسائس: خفیہ جوڑ توڑ، فتنہ پردازی، سازشوں، سازبازوں، منصوبہ سازی، یا ریشہ دوانی، میں مشغول ہونا۔ دَسَّسَ ہ: کو رکھنا، ڈالنا، کھسکانا، دھکیلنا، سرکانا، دھکا دینا، گھسیڑنا، داخل کرنا، ٹھونسنا، کو چھپانا، تَدَسَّسَ الی: میں خفیہ طور پر مشغول ہونا۔ — فی: میں چھپا ہونا۔ اِنْدَسَّ بین: کے درمیان سرک جانا، میں کھسک جانا، سرک جانا، — بین: کے مابین گھسنا، دبے پاؤں آنا، کھسک آنا، — فی: میں گھسنا، دبے پاؤں آنا، کھسک آنا، سرایت کرنا۔ فی / الی: کے دل میں گھر کرنا، چپکے چپکے کسی کے اعتماد میں آنا، — : چھپا ہونا، دَسِیسَۃ جمع دَسَائِس: سازش، سازباز، ریشہ دوانی، خفیہ منصوبہ، دَسَّ الدسائس ضد: کے خلاف خفیہ منصوبے بنانا، سازشیں، گٹھ جوڑ، ریشہ دوانیاں کرنا۔ دَسَّاس جمع دَسَّاسون: سازشی، منصوبہ باز، سازش کرنے والا، سازباز کرنے والا، مفسد، ریت میں رہنے والا سانپ۔

دست: ۱۔ الدَّسْت جمع دُسُوت: (فارسی لفظ) حیلہ، دھوکا، مکان کا صدر مقام، مجلس، تکیہ، کاغذ، لباس، صحراء - فی لعب الشطرنج (شطرنج کے کھیل میں بولتے ہیں: الدَّسْتُ لی: میں جیت گیا۔ الدَّسْتُ عَلَیَّ: میں ہار گیا، مجھ کو مات ہوگئی۔) ایک معروف کھیل (یا [illegible]) تانبے کی بڑی دیگچی (عام زبان میں)۔

۲۔ الدَّسْتَجَۃ: جمع دَسَاتِج: گٹھا، مٹھا شیشے کا بڑا برتن۔ (فارسی لفظ)

۳۔ الدَّسْتُور جمع دَسَاتِیر: (فارسی لفظ) مجموعہ قوانین، وزیر (قانون کی وجہ سے)، اجازت، وہ کتاب جس میں بادشاہ کے قوانین وضوابط درج ہوں، فوجیوں کے ناموں اور ان کے وظائف وغیرہ کا رجسٹر۔

۴۔ الدَّسْتَان: جمع دَسَاتِین (مو): موسیقی کی اصطلاح میں بربط کا تار (فارسی لفظ)

○ دَسْت: جمع دُسُوت: مقام شرف، عہدۂ شرف، کونسل، دست الحکم: (حاکم) کا تخت۔ دِسْت: جمع دُسُوت: کیتلی، بائلر، تانبے کی دیگ یا کڑھائی۔ دَسْتَۃ: درجن، گٹھڑی، بقچہ، پلندہ، بنڈل، گانٹھ، پیکٹ، ڈبیہ۔ — دَسْتُور: جمع دساتیر تحریری قانونی، قواعد، ضوابط، ذیلی قوانین، (بنیادی) آئینی قانون (ملکی) آئین۔ (عام زبان میں) اجازت۔ دَسْتُورِیّ: آئینی۔ النظام الدستوری: آئینی شکل کی حکومت۔ دَسْتُورِیَۃ: آئینی ہونا۔ عدم الدستوریہ: غیر آئینی ہونا۔

دسر ۱۔ دَسَرَ-دَسْرًا ہ: کو نیزہ مارنا، کو دفع کرنا، ہٹانا۔

دَوْسَر: شاہ عراق نعمان بن منذر کی فوج کے دستہ کا نام۔ الدُّسُراء: جمع دُسُر: کشتی۔

۲۔ دَسَرَ-دَسْرًا الشیءَ: کو میخ لگانا۔ — السفینۃ: رسی یا میخ وغیرہ سے کشتی کی درستی کرنا۔ — الدِّسار فی الشیء: چیز میں میخ ٹھونکنا۔ — الدِّسار جمع دُسُر و دُسْر: کیل، میخ، جہاز وغیرہ کی درزیں بند کرنے کے لئے پرانی رسیوں کی سن۔

۳۔ الدَّوْسَر: گیہوں میں ایک تلخ قسم کا دانہ (ح) شیر، (ح) موٹا اونٹ، — والدَّوْسَرِیّ و الدُّوَاسِر و الدُّوَاسِری و الدَّوْسَرَانِی: مضبوط، موٹا۔

○ دَسَرَ-دَسْرًا ہ: کو دھکیلنا، کو دور لیجانا، کو دھکا دینا، داسِر: مشین کا پنکھا، ہوا چخ، فضائی بادکش۔

دسع ۱۔ دَسَعَ - دَسْعًا: منہ بھر کر قے کرنا۔ — بقیئہ: قے پھینکنا۔ — الشیءَ: کو دفع کرنا، ہٹانا۔ — الاناء: برتن کو بھرنا۔ — البعیرُ جِرَّتَہ: اونٹ کا جگالی کرنا۔ بعیرٌ دَیْسَع: بہت جگالی کرنے والا اونٹ۔ — المَدْسَع: حلق میں کھانے کی نالی۔ — الدَّسِیع: اونٹ کے حلق میں نرخرے کی جگہ۔ الدَّسِیعَۃ جمع دَسَائِع: بڑا پیالہ۔

۲۔ دَسَعَ-دَسْعًا العرقُ: رگ کا گوشت میں چھپنا۔

۳۔ دَسَعَ-دَسْعًا الرجلُ: بہت بخشش دینا۔ الدَّسِیعَۃ جمع دَسَائِع: بہت بخشش، عمدہ دسترخوان۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۴۔ الدَّسِیْعَۃَ: جمع دَسَائِع: طبیعت۔ قوت۔

دسق: ۱۔ دَسِقَ-دَسَقًا الحوضُ حوض کا بھرنا، لبالب ہونا۔ ادْسَقَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ الدَّیْسَق: بھرا ہوا حوض۔

۲۔ الدَّیْسَق چاندی کا تھال یا خوانچہ۔ صاف چاندی کا ہر زیور، لمبا راستہ، بوڑھا آدمی، خوبصورتی، روشنی، سفیدی، سراب کی سفیدی اور چمک۔

دسك: ۱۔ الدَّوْسَكَ: چمڑے کی پٹی۔

۲۔ الدَّسْکَرَۃَ: جمع دَسَاکِر (فارسی لفظ): بڑا گاؤں، گرجا، ہموار زمین، وہ جگہیں جہاں شراب اور کھیل کود کی چیزیں ہوں۔ محل جیسی عمارت جس کے ارد گرد مکانات ہوں اور ان میں مدذات لوگوں کا اجتماع ہوتا ہو۔

○ دَسْکَرَۃ: جمع دَسَاکِر گاؤں۔

دسم: ۱۔ دَسَمَ-دَسْمًا القارورۃَ بوتل کا منہ بند کرنا، ڈاٹ لگانا ــ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ ــ الجرحَ: زخم میں بتی رکھنا۔ ادْسَمَ القارورۃَ: بوتل کا منہ بند کرنا، بوتل کو ڈاٹ لگانا۔ الدُّسْمَۃ و الدِّسام: کاک ڈاٹ (بوتل وغیرہ کا) کہا جاتا ہے: ماھو الا دُسْمَۃٌ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

۲۔ دَسَمَ - دَسْمًا المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو تھوڑا سا تر کرنا۔ رَسَّمَ المطرُ الارضَ بارش کا زمین کو تر کر دینا۔ الدَّیْسَم: کام کا مہربان ساتھی۔

۳۔ دَسَمَ الاثرُ نشان مٹ جانا۔

۴۔ دَسَمَ-دَسْمًا البعیرَ: اونٹ پر قطران وغیرہ ملنا۔ دَسِمَ-دَسَمًا و تَدَسَّمَ: سیاہی مائل نیالے رنگ کا ہونا۔ دَسَّمَ الشیءَ: کو سیاہ کرنا۔ الدَّیْسَم: سیاہی، تاریکی۔ الدُّسْمَۃ: بھورا مائل سیاہی۔

۵۔ دَسِمَ-دَسَمًا و دُسُومَۃً: بہت چربی والا ہونا۔ صفت: دَسِم و ادْسَم: مونث دَسِمَۃ و دَسْماء: جمع دُسْم و دُسُم تَدَسَّمَ الشیءَ: پر چکنائی رکھنا۔ الدَّسَم: چکنائی (گوشت کی یا چربی کی)

۶۔ دَسِمَ-دَسَمًا و تَدَسَّمَ الشیءُ: میلا ہونا مٹالے رنگ کا ہونا۔ الدَّسَم: چکنائی کا میلا پن

۷۔ الدَّسْم: طرف، چیز کی انتہا کہا جاتا ہے۔ انا علی دَسْمِ الامر: میں کام کے اختتام پر ہوں۔ الدَّیْسَم (ح): ریچھ یا اس کا بچہ (ح): لومڑی یا لومڑی کا بچہ (ن) ایک قسم کی گھاس

○ دَسَم چربی، روغن، چکنائی۔ دَسِم چربی دار، روغن دار، روغنی، چکنا، کثیف، میلا، غلیظ، گندہ، میلا کچیلا، زرخیز، ثمر آور، بہت سا، کثیر، وافر، اہم، پرمغز، زور دار، پُرمعنی، پرخیال (پڑھنے کا مسالہ)۔

ادْسَم: مؤنث دَسْمَاء جمع دُسْم: بہت چکنا، بہت روغنی، روغنی، چربی دار، کثیف، گندہ، غلیظ، میلا، میلا کچیلا، زیادہ زرخیز، زیادہ معقول، زیادہ پرمغز، زیادہ زوردار، زیادہ پرمعنی، دَسَامَۃ: چکناہٹ، چکنائی، میل کچیل، کثافت، میل۔ دُسُومَۃ: چکناہٹ، کثرت، اہمیت اصلیت، دِسَام: ڈاٹ، کاگ، بچڑ، پلگ، گٹا، دَیْسَم: سدابہار پھول، گل اشرفی۔

○ دِسَمْبَر دِسَمْبِر: دسمبر۔ شمسی سال کا بارہواں مہینہ۔

دسا: دَسَا-دَسْوًا و دَسَی-دَسْیًا: نشوونما نہ پانا۔ ــ الرجلُ: چھپنا۔ دَسَّی الرجل: کو خراب کرنا۔ گمراہ کرنا۔ ــ نفسَہُ: اپنے آپ کو گمنام کرنا، کم بخت کرنا۔

○ دَسَّی ہ: کو رائج کرنا۔ تَدَسَّی: چھپنا، چھپا ہوا ہونا۔ ــ الی: کے آر پار ہونا۔

دش: دَشَّ-دَشًّا: دلیا تیار کرنا۔ ــ الحَبَّ: غلہ کو کچلنا، دلنا۔ الدَّشِیش: گیہوں کے مانند ایک غلہ کا دلیا۔ الدَّشِیْشَۃ (ط) دلیا۔

○ دُش: فوارے کے نیچے غسل، ڈوش، پچکاری۔ دَشِیش و دَشِیْشَۃ: دلے ہوئے گیہوں اور مکھن سے تیار کئے ہوئے دلیہ کی ایک قسم۔

○ دَشْت: کاٹ کباڑ، ردی مال، ردی چیز الابلا، ملبا، کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک، ردی۔

دشق: الدَّوْشَق: بڑا گھر، (ح) موٹا اونٹ۔

دشك: الدوشِك: فرش، بچھونا (فارسی لفظ)۔

دشن: ۱۔ دَشَنَ-دَشْنًا الشیءَ: چیز کو دینا۔ تَدَشَّنَ الشیءَ: چیز لینا۔

۲۔ دَشَّنَ الثوبَ: کپڑا پہلی بار پہننا، عام لوگ اس معنی میں خَشَّنَ کہتے ہیں ــ المعبدَ: کسی عبادت گاہ میں برکت کے طور پر سب سے پہلے نماز ادا کرنا۔ الدَّاشِن من الثیاب: نیا کپڑا جو ابھی پہنا نہ گیا ہو۔ ــ من الدور: نیا مکان جس میں کسی نے رہائش نہ کی ہو۔ (دُشن: جو فارسی لفظ ہے کو عربی کا جامہ پہنایا گیا ہے)۔

○ دَشَّنَ ہ: کو پیش کرنا، دینا، کو نذر کرنا، وقف کرنا، کسی دینی کام کے لئے مخصوص کرنا، کا افتتاح کرنا، تدشین: نذر کرنا، وقف کرنا، دینی کام کے لئے مخصوص کرنا، افتتاح کرنا۔ تدشین الکنیسۃ: گرجا کا وقف، تقدیس، تحریم۔

دشا: دَشَا-دَشْوًا: لڑائی میں کود پڑنا۔

○ تَدَشَّی: ڈ ڈ ر لینا۔

دظ: دَظَّ-دَظًّا ہُ: کو دھتکارنا۔

دع: ۱۔ دَعَّ-دَعًّا ہُ: کو سختی سے ہٹانا، ادَعَّ الرجلُ: بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں والا ہونا۔ الدَّعَاع: (کسی کے) چھوٹے چھوٹے بال بچے۔ الدُّعَاع: واحد دُعَاعَۃ (ح) سیاہ پردار چیونٹیاں۔ (ز): کھجور کے متفرق درخت، (ز): ایک جنگلی درخت کے سیاہ دانے۔

۲۔ دَعْدَعَ دَعْدَعَۃً و دَعْدَاعًا: آہستگی سے دوڑنا۔ تَدَعْدَعَ: بوڑھے کی طرح چلنا۔ دَعْدَعُ: (آخری عین کے جزم) و دَعْدَعَا: (اور آخری عین پر دو زبروں کے ساتھ) گرنے والے کو کہا جاتا ہے معنی ہے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔

۳۔ دَعْدَعَ دَعْدَعَۃً و دَعْدَاعًا الجفنۃَ: برتن بھرنا۔ ــ المِکْیالَ: پیمانہ کو ہلانا تاکہ اس میں زیادہ چیز سمائے۔ تَدَعْدَعَ الشیءَ: کو بھرنا۔

۴۔ الدَّعْدَاع: پست قد۔

دعب: ۱۔ دَعَبَ-دَعْبًا و دَعَابَۃً ہُ: کو دفع کرنا، ہٹانا۔

۲۔ دَعَبَ-دَعْبًا و دَعَابَۃً ہُ: سے مذاق کرنا، مسخری کرنا۔ دَاعَبَ مُدَاعَبَۃً ہُ: کے ساتھ کھیلنا، سے مذاق کرنا۔ تَدَعَّبَ علیہ: پر ناز کرنا۔ تَدَاعَبَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ الدَّعِب والداعب: کھیلنے کودنے والا، ہنسی مذاق کرنے والا۔ دَعَّاب و دَعَّابۃ: بہت خوش طبعی کرنے والا، بہت ہنسی مذاق کرنے والا (اس میں تا مبالغہ کے لئے ہے۔ تانیث کے لئے نہیں)۔ الدُّعَابۃ: خوش طبعی، ہنسی مذاق۔ الدُّعْبُب: بڑا کھلاڑی، اچھا گویا۔ الادْعَب: مونث دَعْبَاء: جمع دُعْب: احمق، بیوقوف۔ الدُّعْبُوب: پست قد، کمزور شخص جس کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ بیوقوف، مخنث۔

۳۔ الدُّعْبُبُ: نازک بدن جوان۔ الدُّعْبُوب (ح): سیاہ چیونٹی۔ سیاہ دانہ جو کھایا جاتا ہے۔ بہت چلنے والا کھلا راستہ، خوش اور چست آدمی (ح) لمبا گھوڑا۔ لیلۃٌ دُعْبُوبٌ: بری رات، سیاہ اور تاریک رات۔

۴۔ الدُّعْبُوث و الدُّعْبُوس: کم خرد، بیوقوف۔

۵۔ الدِّعْبِل: مینڈک کے انڈے ــ والدِّعْبِلَۃ (ح): طاقت ور اونٹنی۔

○ دَعَّ ہ: (غریب یا یتیم) کی بات کو حقارت سے مسترد کر دینا۔

○ دَعَبَ-دُعَابَۃ ہ سے مذاق کرنا، دل لگی کرنا، کو چھیڑنا۔ داعَبَ ہ/ہ: کے ساتھ کھیلنا، ــ ہ: سے مذاق کرنا، دل لگی کرنا، کو چھیڑنا۔ ــ ہ ب: کو خوش طبعی سے (چپت) لگانا، ــ ھا: (عورت) سے تفریحاً صحبت کرنا، جی بہلانا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کلول کرنا، کھیلنا کے پیچھے پھرنا، سے عشقیہ تعلق رکھنا۔
ــ ہ: سے لہروں کا کھیلنا......ــ ہ: پر پیار سے ہاتھ
پھرنا، چومنا۔ ــ ہ: سے تفریح کرنا، کو ترغیب دینا،
بہکانا، سبز باغ دکھانا (امیدوں وغیرہ کا)۔ ــ ہ: کوئی
باجا وغیرہ بجانا۔ داعَبَ البیقو: پیانو بجانا۔ تداعَب:
آپس میں ہنسی مذاق کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، خوش طبعی
کرنا۔ دَعِب: ہنسی مذاق کرنے والا، ہنسوڑ، دل لگی
باز، کھلنڈرا، چنچل، پرمذاق، زندہ دل، خوش وخرم، خوش
مزاج، ہنس مکھ، شوخ۔ دُعابة: جمع دُعابات: ہنسی
مذاق، دل لگی، چھیڑ چھاڑ، مذاق، شوخی۔ دَعّاب:
خوش طبع، ٹھٹھول، ہنسوڑ، ظریف، پرمذاق، خوش
مزاج، چنچل، کھلنڈرا، شوخ مزاج، زندہ دل، خوش،
خوش وخرم، ہنس مکھ، شوخ۔ مُداعَبة: جمع مُداعَبات:
کھیل، مذاق، شوخی، دل لگی، ہنسی مذاق، ظرافت، خوش
طبعی، بزلہ سنجی، نخرہ بازی، معاشقہ، عورتوں کے پیچھے
پھرنا۔ داعِب: ہنسی مذاق کرنے والا، دل لگی کرنے
والا، چنچل، کھلنڈرا، شوخ، شوخ مزاج، زندہ، دل،
پرمذاق، ہنسوڑ، دل لگی کرنے والا، خوش وخرم۔ مُداعِب:
ہنسی مذاق کرنے والا، دل لگی کرنے والا، چھیڑ چھاڑ
کرنے والا۔

○ مُدَعْبَل: بیمار، مضمحل، افسردہ، ست، ناساز، گول، گیند
کی شکل کا۔

دعت: دَعَتَ ـ دَعْتًا ہُ: کو سختی سے دھکیلنا، زور سے دھکا
دینا۔

دعث: ۱۔ دَعَثَ ـ دَعْثًا: پاؤں یا ہاتھ وغیرہ سے مٹی کو
باریک کرنا۔ ـ بہ الارض: کو زمین پر پٹک دینا۔ اِنْدَعَثَ
الشیءُ: روندا جانا، پامال کیا جانا۔

۲۔ دُعِثَ: کے رونگٹے کھڑے ہونا۔ الدَّعْث: بیماری کی
ابتداء۔

۳۔ اِدَّعَثَ فی الشرّ: برائی میں زیادتی کرنا۔ تَدَعَّثَ
تْ صُدُورُهم: کینہ بغض رکھنا۔ الدِّعْث: جمع
اَدْعَاث و دِعَاث: کینہ، بغض۔

۴۔ اِدَّعَثَ الشیءَ: کو باقی رکھنا۔ الدِّعْث جمع
اَدْعَاث و دِعاث: باقی ماندہ پانی۔

۵۔ اِدَّعَثَ الشیءَ: چیز کو چرانا۔

۶۔ دَعْثَرَ الارضَ: زمین کو روندنا۔ ــ الحوضَ: حوض
توڑنا۔ الدُّعْثُور من الحوض: اطراف سے گرایا
ہوا، ٹوٹا ہوا حوض، گڑھا۔

۷۔ الدَّعْثَر: احمق، بیوقوف۔ الدُّعْثور من النَّعَم:
بہت جانور۔

دعج: دَعِجَ ـ دَعَجًا: العینُ: آنکھ کا بہت سیاہ اور بڑی
ہونا۔ اَدْعَج: مؤنث دَعْجاء: جمع دُعْج: سیاہ
اور بڑی آنکھوں والا۔ الدُّعْجة: آنکھوں کی سیاہی
اور فراخی۔ لیلٌ اَدْعَج: تاریک رات، سیاہ رات۔
الدَّعْجاء: قمری ماہ کی اٹھائیسویں شب۔ المَدْعُوج:
مجنون۔

○ اَدْعَج: مؤنث دعجاء: جمع دُعْج: سیاہ آنکھوں
والا، گہری سیاہ اور فراخ (آنکھ)

دعر: ۱۔ دَعِرَ ـ دَعَرًا العودُ: لکڑی کا دھواں دینا اور نہ
جلنا ـــ الزَّنْدُ: چقماق کا آگ نہ دینا صفت اَدْعَر
الداعِرة: جمع مَداعیر: وہ کھجور کا درخت جس میں
قلم نہ لگ سکے۔

۲۔ دَعِرَ ـ دَعَرًا العودُ: لکڑی کا بوسیدہ ہونا۔ صفت:
الدُّعْر واحد دُعْرة (ح): لکڑی کو کھانے والا کیڑا،
گھن۔

۳۔ دَعَرَ و دَعِرَ ـ دَعَارَةً الرجلُ: بدکار ہونا۔ تَدَعَّرَ
الرجلُ: بد اور شریر ہونا۔ الدَّعَر و الدَّعَرة و
الدَّعَارة و الدِّعارة: خباثت، بدکاری، فساد، رجلٌ
دُعَر و دُعَرة: خائن جو اپنے ساتھیوں کی عیب جوئی
کرے۔ الداعِر (فا): مؤنث داعِرة: جمع دُعّار:
شریر، برا، بدکار۔ الدَّعارة و الدَّعارّة: بدخوئی۔

۴۔ تَدَعَّر وجهُهُ: کے چہرے کا داغدار ہونا۔

○ دَعِرَ ـ دَعَرًا: بداخلاق ہونا، فاسق ہونا، فاجر ہونا،
بدفعل ہونا۔ دَعَر: بدفعلی، فسق وفجور، بدکرداری، بے
حیائی، بے شرمی۔ دَعِر: بے حیا، بے شرم، فحش، نفس
پرست، عیاش، زانی، لچا، غنڈہ، بدکار، آوارہ،
بدمعاش، بدچلن، خلاف تہذیب، بیہودہ، بدفعل،
خلاف شرع، دَعَارة و دِعارة: فحاشی، بے حیائی،
بے شرمی، بدفعلی، بدکاری، فسق وفجور، عیاشی، اوباشی،
بدکاری، شہوت پرستی، رنڈی بازی۔ بیت الدعارة:
چکلا، رنڈی کا مکان۔ داعِر: جمع دُعّار: بمعنی دَعِر۔

دعس: ۱۔ دَعَسَ ـ دَعْسًا الشیءَ: کو روندنا۔ ــ
و دَعَّسَ المرأةَ: عورت کو چھاتی سے لگانا، سے محبت
سے کھیلنا، کو پیار کرنا، کی ناز برداری کرنا۔ الدَّعْس:
نشان۔ طریقٌ دَعْسٌ: بہت نشانات والا راستہ۔
المِدْعَس و المِدْعاس جمع مَدَاعِس و
مداعیس: بہت چلنے والی سڑک۔

۲۔ دَعَسَ ـ دَعْسًا فلانًا: کو دفع کرنا، ہٹانا، دھکا دینا۔
و دَعَّسَ ہُ بالرمح: کو نیزہ سے مارنا۔ داعَسَ
مُداعَسةً: آپس میں نیزہ بازی کرنا۔ المِدْعَس:
نیزہ مارنے والا، ــ و المِدْعاس: جمع مَدَاعِس و

۳۔ دَعَسَ ـ دَعْسًا الوعاءَ: برتن کو بھرنا۔

۴۔ المَدْعَس: امیدگاہ۔

○ دَعَسَ ـ دَعْسًا ہُ: کو پاؤں کے نیچے روندنا، پامال
کرنا، کچلنا۔ ــ ہ: (گاڑی کا) کسی کو مار گرانا، کو نیچے
لے لینا۔ اِنْدَعَسَ: (دَعَس: کا مجہول کا صیغہ جیسے)
روندا جانا، کچلا جانا، پامال ہونا۔

دعص: ۱۔ دَعَصَ ـ دَعْصًا ہُ: کو قتل کرنا، ــ ہُ بالرمح:
کو نیزہ مارنا۔ اِدَّعَصَ ہُ: کو قتل کرنا۔ المَداعِص:
نیزے۔

۲۔ داعَصَ ہُ: کا عزت میں مقابلہ کرنا۔

۳۔ تَدَعَّصَ اللحمُ: گوشت کا سڑ کر ریزہ ریزہ ہونا۔
الدِّعْص: جمع دِعَصة و اَدْعاص و الدِّعْصة:
جمع دِعَص: ریت کا تودہ یا ٹیلہ۔ الدَّعْصاء: نرم اور
دوسری جگہوں سے زیادہ گرم زمین۔ المُنْدَعِص:
لاش جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو۔

دعق: ۱۔ دَعَقَ ـ دَعْقًا الطریقَ: راستے کو بہت روندنا۔
دَعْق و دَعِق و مَدْعُوق: بہت روندا ہوا (راستہ)۔
دَعِقَ ـ دَعَقًا الطریقُ: راستہ کا بہت روندا ہوا
ہونا۔ الدُّعْقة: اونٹوں کا گلہ۔

۲۔ دَعَقَ ـ دَعْقًا الغارةَ: سب طرف لوٹ ڈالنا ــ
و اَدْعَقَ الخیلَ: گھوڑوں کو ایڑ لگانا۔ ــ علیهم
الخیلَ: پر لوٹ مار میں گھوڑوں سے چڑھائی کرنا۔
الدَّعْقة: چڑھائی، شوروغل۔ خیلٌ مَداعیق:
لوٹ مار میں دشمنوں کو روندنے والے گھوڑے۔

۳۔ دَعَقَ ـ دَعْقًا الماءَ: پانی کو جاری کرنا۔ المَدْعَق:
پانی بہنے کی جگہ۔ الدُّعْقة: بارش کی بوچھاڑ۔

۴۔ دَعَقَ ـ دَعْقًا الرجلَ: کو فوراً مار ڈالنا۔

۵۔ دُعْوَیْقة الطَّیّون (ح): ایک چھوٹی چڑیا۔ (عام بول
چال میں)

دعك: ۱۔ دَعَكَ ـ دَعْكًا الثوبَ: کپڑے کو نرم وملائم
کرنا۔ ــ الخصمَ: مخالف کو نرم کرنا۔ ــ الجلدَ:
چمڑے کو ملنا۔ ــ الشیءَ فی التراب: چیز کو مٹی میں
لوٹانا۔ کہا جاتا ہے۔ دعکهُ بالقول: اس نے اس کو
بات سے دکھ دیا۔ داعَكَ مُداعَكةً ہُ: کے ساتھ
سخت جھگڑا کرنا۔ تَداعَكَ القومُ: آپس میں
خصومت کا سنگین ہو جانا۔ تداعکو فی الحرب:
لڑائی میں باہم زور آزمائی کرنا۔ الدَّعِك: سخت
جھگڑالو۔ المِدْعَك و المُداعِك: سخت جھگڑالو
دشمن۔

۲۔ دَعِكَ ـ دَعَكًا: بے وقوف ہونا۔ صفت داعِك و
داعِكة: مؤنث داعِكة۔ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

احمقُ داعِکۃٌ: فلاں شخص سخت بے وقوف ہے۔ (تاء مبالغہ کی ہے)۔

۳۔ داعَکَ مُداعَکۃً ہُ: کوٹال مٹول کرنا۔

۴۔ الدُعَکُ: گمنام (ح) ایک قسم کا پرندہ، کمزور۔ الدُعْکَۃ: راستہ کا بڑا حصہ۔

○ دَعَکَ - دَعْکاً ہ: کو ملنا، رگڑنا، گھسنا، مسلنا، کھرچنا، مانجنا، جھاڑو سے صاف کرنا، صاف کرنا، (میلے کپڑے) پٹرے پر صاف کرنا، کو پیسنا، کچلنا، پامال کرنا، مسلنا، نچوڑنا، ملنا، کوٹنا، (کاغذ) کو مروڑنا، ریزہ ریزہ کرنا، پرشکن کرنا۔

دعل ۱۔ دَعَلَ -دَعْلاً ہُ: کو دھوکا دینا۔ داعَلَ ہُ: ایک دوسرے کو دھوکا دینا۔ الداعِل (فا) بھگوڑا۔

۲۔ دَعْلَجَ دَعْلَجَۃً اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الدَعْلَج: تاریکی۔

۳۔ دَعْلَجَ دَعْلَجَۃً الرجلُ: بار بار آنا جانا۔

۴۔ دَعْلَجَ دَعْلَجَۃً الشیءَ: چیز کو لڑھکانا۔

۵۔ دَعْلَجَ دَعْلَجَۃً الشیءُ: چیز کے رنگوں کا مخلوط ہونا۔ الدَعْلَج (ز): گھنے اور گنجان تودے۔

۶۔ الدَعْلَجَ: بھری ہوئی گون، خوبصورت اور نازک بدن جوان۔

دعم ۱۔ دَعَمَ - دَعْمًا الشیءَ: کو ٹیک لگانا تا کہ جھکے نہ۔ ــــ ہ: کی مدد کرنا، کو تقویت پہنچانا۔ اِدَّعَمَ: سہارا لینا۔ تھاما جانا۔ الدِعْمَۃ: جمع دِعَم و الدعام: جمع دُعُم و الدِعامۃ: جمع دَعائِم: گھر کا ستون، لکڑی کا کھمبا جو چھت کو سہارا دینے کے لئے کھڑا کیا جائے۔ الدِعْمَتان و الدِعامَتان: چرخی کے ہر دو رخ کے ڈنڈے۔ دِعامَۃُ القوم: قوم کا سردار۔ الدُعْمِیّ: بڑھئی، مضبوط سہارا دی ہوئی چیز۔ المُدَّعِم: پناہ گاہ۔

۲۔ تَدَاعَمَ الامرُ فلاناً: پر کاموں کا ہجوم کرنا۔

۳۔ الدُعْمِیّ: راستہ کا بڑا حصہ۔ فرسٌ دُعْمِیٌّ: سفید سینے والا گھوڑا۔ فرسٌ اَدْعَمُ: سفید سینے والا گھوڑا۔

۴۔ دَعْمَصَ الماءُ: پانی کا سیاہ کیڑوں والا ہونا۔ الدُعْمُوص جمع دَعامِص و دَعامِیص (ح) پانی کا سیاہ کیڑا جو تالابوں میں پانی کم ہونے پر دکھائی دیتا ہے۔ عوام اس کو البُلْعُط کہتے ہیں۔

○ دَعَمَ - دَعْمًا و دَعَّمَ ہ: کو تھامنا، سہارنا، کو تھامے رہنا، کو سہارا دینا، لگانا، کی پشت بندی کرنا، کو مستحکم کرنا، مضبوط کرنا، جوڑنا۔ اِدَّعَمَ: تھمنا، سہارا دیا جانا، تھاما جانا، ــــ علی: پر ٹیک لگانا، پر قائم ہونا۔ بنیاد ہونا۔ دِعْمۃ: جمع دِعَم: پیل پایہ، سہارا، آسرا، تائید، پشت پناہ، دِعامۃ: جمع دعامات و دَعائِم: سہارا، آسرا، پیل پایہ، کنارا پایہ، ستون، اڑوڑا، پشت، دَعائِم السیادۃ: حکومت کے ستون۔ تَدْعِیم: سہارا، تقویت، مدد، کمک، استحکام، مضبوطی، تائید۔

دعن: دَعَنَ - دَعانۃ: مخول کرنا، شوخی کرنا۔ الدِعَن: جمع دِعَنَّۃ: مخولی، شوخ۔

دعا ۱۔ دَعا - دُعاءً و دَعْویٰ ہُ: کو پکارنا، کی طرف راغب ہونا، سے مدد چاہنا، ـ المیّتَ: میت پر رونا۔ ـ ہُ الی الأمر: کو کسی کام کی طرف چلانا۔ ـ بہ: کو حاضر ہونے کے لئے کہنا، ـ دَعْوَۃً و مَدْعاۃً فلانًا: کو کھانے پر بلانا، ـ دُعاءً لہ: کے حق میں دعائے خیر کرنا، ـ علیہ: کے حق میں بد دعا کرنا، ـ الیہ: کی طرف بلانا۔ تَدَعّٰی تَدَعِّیاتِ النائحۃ: نوحہ کرنے والی کا بلند آواز سے رونا۔ تَداعَی القومُ: ایک دوسرے کو بلانا۔ اِنْدَعَی اِنْدِعاءً لدعوتہ: کی پکار کا جواب دینا، کی دعا قبول کرنا۔ اِدَّعَی الشیءَ: کی تمنا کرنا۔ اِسْتَدْعَی اِسْتِدْعاءً ہُ: کو پکارنا، ــــ الشیءَ: چیز طلب کرنا، کو لازم سمجھنا، الدُعاء: جمع اَدْعِیَۃ: دعا کا مصدر، دعا کرنا۔ الدَعْوَۃ: قسم، پکار، دعا کہا جاتا ہے۔ لہم الدعوۃُ علی غیرہم: دعاء میں انہی سے ابتداء کی جاتی ہے۔ کُنّا فی دعوۃِ فلان: ہم فلاں کی ضیافت اور مہمانی میں تھے۔ ھو منی دَعْوَۃَ الرجل: وہ مجھ سے قریب ہے (ظرفیت کی بنا پر نصب ہے) جیسے کہتے ہیں۔ ھو مِنّی رمیۃَ السَھْم و مَزْجَرَ الکلب الداعی (فا): جمع دُعاۃ مؤنث داعِیۃ جمع داعیات و دواعٍ: لوگوں کو اپنے دین اور مذہب کی طرف بلانے والا۔ ـ والداعیۃ جمع دَواعٍ: سبب، داعِی اللَّبنِ و داعیۃُ: وہ تھوڑا سا دودھ جو تھنوں میں چھوڑ دیا جائے تا کہ بقیہ دودھ با آسانی دوہ سکیں۔ الدَعّاء: بہت دعا کرنے والا۔ المَدْعاۃ: کھانے کی دعوت، سبب، وجہ، الدِعایۃ عند المحدثین: کسی شخص، جماعت یا نظریہ وغیرہ کی طرف دعوت کی نشر و اشاعت، وزارۃ الدعایۃ: وزارت نشر و اشاعت، دائرۃُ الدعایۃ: محکمہ نشر و اشاعت۔

۲۔ دَعا - دَعاءً و دَعْوَی ہُ فلاناً و بفلان: کا کوئی نام رکھنا، اَدْعَی اِدْعاءً ہُ: کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرنا۔ اِدَّعَی الی غیر ابیہ: غیر باپ کی طرف منسوب ہونا۔ ــــ فی الحرب: جنگ میں اپنا نسب نامہ بیان کرنا۔ الدَعِیّ جمع اَدْعِیاء: لے پالک، متبنّیٰ، جس کے نسب میں شبہ ہو، اپنے آپ کو غیر باپ یا غیر قوم کی طرف منسوب کرنے والا۔

۳۔ داعَی مُداعاۃً ہُ: سے جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے پہیلی یا چیستان کہنا، تَداعَوا الشیءَ: کسی چیز کا دعویٰ کرنا۔ اِدَّعَی الشیءَ: کا سچا یا جھوٹا دعویٰ کرنا۔ ــــ بہ: کو اپنی طرف منسوب کرنا اور سمجھنا کہ وہ اس کی ہے۔ ــــ علیہ: کے خلاف قاضی کے پاس مقدمہ کرنا۔ الدَعْوَۃ و الدَعاوۃ و الدِعاوۃ: الادعاء کا اسم الدَعْوَی جمع دَعاوٍ و دَعاوَی: مقدمہ، دعویٰ۔ ــــ اِدّعا کا اسم الأُدْعِیَّۃ و الأُدْعُوَّۃ: جھگڑے کا موضوع۔

۴۔ داعَی مُداعاۃً الحائِطَ: دیوار کو گرانا۔ تَداعَت الحیطانُ: دیواروں کا پھٹ جانا، تڑخ جانا ــــ العدوُّ: دشمن کا متوجہ ہونا۔ ـ القومُ علیہ: قوم کا کسی سے دشمنی رکھنے میں متفق ہونا۔

۵۔ دَواعِی الصدر: افکار و ہموم ــــ الدھر: زمانہ کی گردشیں اور واقعات۔

○ دَعا - دُعاءً ہ: کو پکارنا ـ ہ/ب: کو بلانا، طلب کرنا، کو بلا بھیجنا، ــ ہ اِلی/ل: کو کسی فوجی خدمت کے لئے بلانا، ــ ہ ل/الی: سے کسی کام وغیرہ کی اپیل کرنا، کو کی دعوت دینا، پر کسی کام کے لئے زور دینا۔ ـ ہ الی: کو کی دعوت دینا۔ ــ ہ الی /ل: کو کی ترغیب دینا، کو پر آمادہ کرنا، سے کوئی کام لینا، ــ ہ/ب: کو کے نام سے پکارنا کا کوئی نام رکھنا، دُعِیَ: پکارا جانا نام ہونا، ـ اللہ: اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ـ لہ: کے لئے خیر کی خواہش کرنا، کو دعا دینا، کے حق میں دعا کرنا، ـ ب ل: خدا کی رحمت کی کسی پر دعا کرنا، کی دعا کرنا کی خاطر، ـ ل ب: کے لئے کی التجا کرنا، ــــ علی: کے حق میں بد دعا کرنا، ــ ل: کی اشاعت کرنا، کی نشر و اشاعت کرنا، کے لئے پروپیگنڈا کرنا، ـ الی: کا تقاضا کرنا، کا مطالبہ کرنا، کو طلب کرنا، کی ضرورت ہونا، کا باعث ہونا، کو ظہور میں لانا، کا باعث بننا۔ دُعِیَ للاجتماع: اجتماع (پارلیمنٹ) کا اجلاس طلب کیا جانا، دُعِیَ الی حملِ السلاح: فوجی خدمت کے لئے طلب کیا جانا، رجل یُدْعَی: ایک مرد نامی ......، کے نام کا، دعالہ بطول العمر: کے لئے درازی عمر کی دعا کرنا۔ داعاہ: کو چیلنج کرنا ــ ہ: سے جھگڑا کرنا، کے خلاف قانونی کارروائی کرنا، پر مقدمہ چلانا، کے خلاف استغاثہ کرنا، کے خلاف نالش کرنا، تَداعَی: ایک دوسرے کو چیلنج کرنا، ایک دوسرے کو بلانا، ایک دوسرے کے (جذبات وغیرہ) ابھارنا، (دیواریں وغیرہ) ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ ہونا، خراب و خستہ ہونا، بری حالت میں ہونا، بیٹھ جانا، دھنس جانا، (شخص کا) زمین پر گر جانا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مجازاً ثقافتی مظہر کا) ڈھیر ہو جانا، زوال پذیر ہونا رو بہ تنزل ہونا۔ مل کر بیٹھنا یا چلنا، حمایتیوں کا جمع ہونا

اِدَّعَی ہ: کا دعوی کرنا ــــ ان: دعوی کرنا کہ، بیان دینا کہ دعوے سے کہنا کہ ــــ ہ: پر حق جتانا، کا مطالبہ کرنا، کا دعوی کرنا، کے نامناسب دعوے کرنا، ناجائز طور پر کسی چیز پر قبضہ کرنا یا اس پر کسی حق کا دعوی کرنا۔ ــ ہ: کا جھوٹا اظہار کرنا۔ ــــ (عدالت میں) شہادت دینا۔ ــ علی ہ/ب: کو کا الزام دینا، پر کا الزام لگانا، کو کا قصوروار ٹھہرانا، استدعی ہ: کو بلانا، بلا بھیجنا، (پولیس عدالت کا) کسی کو طلب کرنا، (سفیر) کو دوبارہ طلب کرنا۔ (پروفیسر وغیرہ) کو تعینات کرنا، کو نام لیکر بلانا، ــ ہ الی: کو کی دعوت دینا، پر کچھ کرنے کا زور دینا، کو کی تجویز پیش کرنا، کی اپیل کرنا، ــــ ہ کو مانگنا، کی ضرورت ہونا، کا مطالبہ کرنا، کو ضروری بنانا، لازمی کرنا، کو ناگزیر بنانا، دعوۃ: پکار، اپیل، مطالبہ، درخواست، اعلان، حکم، ــ الی: کے لئے بلاوا، طلبی، دعوت، ـ بلاوا (سرکاری) اطلاع نامہ، حکم نامہ، طلبی دعوت، دعوت نامہ، دعوی، مطالبہ، درخواست، استدعا، تبلیغی سرگرمی، تبلیغی کام، نشر الدعوۃ: تبلیغی سرگرمی، تبلیغی کام، پروپیگنڈا جمع دعوات، دعا، مناجات، طلب نصرت طلب فیضان، التجا، گڑگڑا کر مانگنا، منت سماجت، عرض، نیک خواہش، دعوات صالحات: نیک خواہشات، دعوۃ بالشر: لعنت، نفریں، بددعا، صاحب الدعوۃ: میزبان، دَعْوَیً: جمع دَعَاوِی و دَعَاوٍ: دعوی، الزام، ادعاء، ڈھونگ، مقدمہ، کاروائی، قانونی کاروائی بدعوی ان: اس عذر پر۔ دَعِیّ: جمع اَدْعِیاء: متبنی، لے پالک، حرامی، ولد الزنا، شیخی خورہ، دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنے والا۔ مدعی، جھوٹا دعوی کرنے والا، دھوکے باز، فریبی، دغاباز، ٹھگ، بہروپیا، دُعاء: جمع اَدْعِیَۃ: پکار، دعا، اللہ تعالی سے دعا، طلب نصرت و طلب فیضان اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا مناجات، التجا، منت سماجت، استدعا، عرض، درخواست، دعا، نماز ــ ل: کے لئے نیک خواہش ــ علی: پر لعنت، نفریں، اَدْعی الی/ل: کا زیادہ باعث، زیادہ ممد، پر زیادہ اکسانے والا، زیادہ ترغیب دینے والا، زیادہ آمادہ کرنے والا، کا زیادہ بڑا محرک کا نسبتاً زیادہ حد تک باعث بننے والا۔ دَعاوَۃ و دِعاوَۃ: جمع دعاوات: پروپیگنڈا، ــــ الی: کی تشہیر۔ دَعاوِیّ و دِعاوِیّ: مبلغانہ، ناشرانہ، نشرواشاعت کے متعلق۔ دِعایۃ: پروپیگنڈا دِعائی: پروپیگنڈا سے متعلق۔ مَدْعاۃ: تعین کرنے والا عنصر، فیصلہ کن مقصد یا محرک، سبب، موقع۔ تَداعٍ: قریب الوقوع انہدام، سر پر منڈلاتا انحطاط، ایک دوسرے کو بلانا، تداعی المعانی: افکار کا باہمی میل جول، ــ اِدِّعاء: جمع ادعاءات: دعوی، جھوٹا دعوی، بے جا دعوی، ناجائز مفروضہ، ظن، قیاس یا گمان، الزام، حتمی بیان، ڈھونگ، حیلہ، مکر، بہانہ، اتہام، الزام، الادِّعاء: (عدالت میں) استغاثہ، اِسْتِدْعاء: حکمانہ طلبی، اطلاع نامہ حاضری، بلانا دوبارہ بلانا، واپس بلانا، سرکاری طلبی، اطلاع نامہ، داعٍ: جمع دُعاۃ: دعوت دینے والا پروپیگنڈا کرنے والا، مبلغ میزبان، مقصد وجہ، سبب۔ لاداعیَ ل: کیلئے یہ ضروری نہیں یا کے لئے کوئی ضرورت نہیں، کیلئے کوئی وجہ نہیں۔ داعِیۃ الی: کی دعوت دینے والا، کا طالب، کا مبلغ، مناوی نقیب، جمع دواعٍ مقصد، وجہ، سبب، موقع، جمع دواعٍ: ضرورت، شدید ضروریات۔ داعیۃ حرب: جنگ چھیڑنے کی کوشش کرنے والا، جنگ شروع ہونے کا حامی۔ لِدواعٍ صحیۃ: صحت کی وجوہات کے لئے۔ من دواعی سُرُوری: سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ مَدْعُو: جس کو دعوت دی گئی ہو، مہمان، بلایا گیا، نام رکھا گیا، نامی، کے نام کا، مُتَداعٍ: ایک دوسرے کو پکارنے والا (دوسرے خیالات یا دوں) کی طرف لیجانے والا، نازک، لرزاں (ساخت)، ٹوٹا پھوٹا، شکستہ، لڑھکتا، ڈگمگاتا، گرنے کو تیار، جس کے انہدام کا خطرہ ہو، زوال پذیر، زوال پذیر حال میں، مُدَّعٍ: دعوی کرنے والا، حتمی بیان دینے والا، بیان کرنے والا، مُدَّعی: جھوٹا دعوی کرنے والا، زعم باطل رکھنے والا، دعویدار، نالش کرنے والا، مستغیث، دادخواہ، پیروی کرنے والا، استغاثہ دائر کرنے والا، دیدہ دلیر، گستاخ، شوخ، مغرور، ہٹیلا، ضدی، خود رائے، خود دماغ، خود پسند، خود بین۔ المدعی العمومی: سرکاری وکیل۔ المدعی العام: سرکاری وکیل۔ مُدَّعًی: دعوی کیا ہوا المدعی علیہ مدعی علیہ: (Defendant) جمع مُدَّعَیات: دعوے، مُسْتَدْعٍ: درخواست دہندہ، درخواست دینے والا، استدعا کنندہ، سائل۔

دغد: دَغْدَغَ دَغْدَغَۃً فلانا بکلمۃ: کو کسی بات سے طعنہ دینا، مطعون کرنا۔ المُدَغْدَغ: حسب و نسب میں کھوٹ رکھنے والا، الدَّغْدَغۃ: رکیک گفتگو کرنا۔ گدگدی کرنا، مثلا پاؤں کے تلوے یا بغل کو … گدگدی … کہتے ہیں۔

◯ دَغْدَغَ ہ: کو گدگدانا ــ ہ: کو چبانا، چابنا، چبا کر کھانا، ــ: مسلنا، پیسنا، کچلنا

دغر: ۱۔ دَغَرَ ـ دَغْراً ہ: کو دفع کرنا، دھکیلنا، ــ علیہ: کسی پر اچانک آنا، دَغَرَ ـ دَغْراً و دَغْرَی علیھم: لوگوں پر اچانک پہنچ جانا، اِنْدَغَرَ علیہ: پر یک بیک آجانا۔ الدَّغْرَۃ: کسی شئے کو اچک لینا۔ المَدْغَرَۃ: گھمسان کی لڑائی جس میں لوٹ مار ہو۔

۲۔ دَغَرَ ـ دَغْراً فی البیت: گھر میں داخل ہونا، ــ الشیءَ فی الشیء: ایک چیز کو دوسری میں ملانا، خلط ملط کرنا۔ ــتِ المرأۃُ حلقَ الصبیّ: عورت کا بچے کے حلق کو انگلی سے دبانا، ــتِ الأمُّ ابنھا: ماں کا بچے کو دودھ سے سیر نہ کرنا۔

۳۔ دَغَرَ ـ دَغْراً ہُ: کو گلا گھونٹ کر مار ڈالنا۔ اِنْدَغَرَ: دبنا، بھنچنا، نچڑنا۔

۴۔ دَغِرَ ـ دَغَراً الرجلُ: بداخلاق اور لیئم ہونا، صفت: دَاغِر۔ الداغِر: بد، مفسد، حقیر، ذلیل۔

◯ دَغَرَ ـ دَغْراً و دَغْرَی علی: پر حملہ کرنا، پر ٹوٹ پڑنا، سختی سے حملہ کرنا، دَغْر: حملہ، ہلہ، دھاوا، دَغْرَی: حملہ، ہلہ، دھاوا۔

◯ دُغْرِیّ: سیدھا، سیدھی، سامنے۔

دغش: اِدْغَشَ ـ دَغْشاً: تاریکی میں داخل ہونا، ــ علیھم: پر اچانک ٹوٹ پڑنا، ہجوم کرنا۔ داغَشَ حولَ الماءِ: پیاس میں پانی کے ارد گرد گھومنا، ــ الماءَ: پانی کو تیزی سے پی جانا۔ اَدْغَشَ: تاریکی میں داخل ہونا۔ تَداغَشَ القومُ و دَغْوَشُوا: لڑائی یا شور و غل میں آپس میں گتھ جانا۔ الدَّغَش و الدُّغْشَۃ و الدَّغِیشۃ: تاریکی۔

۲۔ داغَشَ ہُ: پر بھیڑ کرنا، ــ فی الشیء: حرص کے باعث کسی سے کوئی چیز مکر سے طلب کرنا۔

◯ دغشت الدنیا: اندھیرا ہو گیا، دھندلکا چھا گیا، دَغَش: تاریکی، دھندلکا، جھٹ پٹا، دَغِیشۃ: تاریکی شام کا دھندلکا۔

دغص: ۱۔ دَغِصَ ـ دَغَصاً: کھانے یا غصے سے بھر جانا۔ اَدْغَصَ ہُ: کو غصے سے بھر دینا۔ الداغِصۃ: جمع دَواغِص: گٹھا ہوا گوشت۔ الدَّغْصان: غضبناک۔

۲۔ اَدْغَصَ ہُ الموتُ: کو موت کا یک بیک آلینا۔ داغَصَ مُداغَصَۃً فی العمل: کام میں تیزی برتنا۔

۳۔ الداغِصۃ: جمع دَواغِص: خالص صاف پانی گھٹنے کی چپنی۔ عوام اس کو صابونۃ الرکبۃ: کہتے ہیں۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ دَغَصَ -دَغَصاً: موہنا منہ بھرا ہوا ہونا، پھٹنے کے قریب ہونا۔ دَاغِصَة: جمع دَوَاغِص: گھٹنے کی چپنی، گھٹنے کی چپنی ہڈی۔

دغف: ا۔ دَغَفَ -دَغْفًا الشیءَ: کوسختی سے پکڑنا۔ دَغَفَهُم الحرُّ: پرگرمی کا سخت ہونا۔ ابو الدَغْفَاء: بےوقوف۔

۲۔ الدَغْفَل (ح): ہاتھی یا بھیڑے کا بچہ، بہت سے پر۔ عَیشٌ دَغْفَلِی: آسودہ زندگی، عامٌ دَغْفَلِیٌّ: سرسبز سال۔

دغل: دَغَلَ - دَغْلاً فیه: میں مشتبہ شخص کی طرح داخل ہونا۔ اَدْغَلَ الرجلُ: گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوکر غائب ہوجانا۔ ــت الارضُ: زمین کا گھنے درختوں والی ہونا، ـــ الشیءَ کسی چیز میں مخالف اور خراب کرنے والی چیز ملانا۔ به: کو خیانت کرکے اچانک مار ڈالنا، کی چغلی کھانا، الدَغَل: جمع اَدْغَال و دِغَال والدَغِیلَه: گھنے اور گنجان درختوں کا جھنڈ، وہ چیز جو کسی کام میں داخل ہوکر اس کو خراب کردے۔ وہ جگہ جہاں ہلاکی کا خطرہ ہو۔ مکانٌ دَغِلٌ: گھنے اور گنجان درختوں کی جگہ، پوشیدہ جگہ، الدَاغِلَة: باطنی کینہ، وہ لوگ جو کسی کی خیانت اور عیب جوئی کے متلاشی ہوں۔ المَدْغَل: جمع مَدَاغِل: وادی کا درمیانی حصہ۔ الدَغَاوِل: مصائب اس کا واحد نہیں ہے۔

○ دَغَلٌ: جمع اَدْغَال و دِغَال: گھنے درختوں کا جھنڈ، جنگل جھاڑیوں کے جھنڈ۔ عیب داری، کھوٹ، خرابی، بگاڑ۔ دَغِـل: گھنی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی (جگہ) ناقابل گذر، خراب، مُدْغِل: گھنی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی (جگہ)، غلط، غدار، بے وفا، دھوکا دینے والا (کردار میں)۔

دغم: ا۔ دَغَمَ -دَغْمًا و دَغَمَاناً القومَ الحرُّ او البردُ: کو گرمی یا سردی کا لگنا، ـــ الاناءَ: برتن کو ڈھانپنا، ـــ انفَهُ: کی ناک توڑنا، ـــ دَغِمَ -دَغْمًا و دَغَمَاناً القومَ الحرُّ او البردُ: کو گرمی یا سردی کا لگنا۔ اَدْغَمَهم الحرُّ و البردُ: کو گرمی یا سردی لگنا۔ ـــ اللّٰہُ فلاناً: اللہ تعالیٰ کا کسی کا منہ کالا کرنا اور اسے ذلیل و رسوا کرنا، ـــ هُ الشیءُ: کو کسی چیز کا دکھ پہنچانا، برا لگنا، ـــ الفرسَ اللجامَ: گھوڑے کے منہ میں لگام دینا، ـ وادَّغَمَ الشیءَ فی الشیء: ایک شے کو دوسری میں داخل کرنا۔ صرف کی اصطلاح میں ادغام: بھی اسی سے ہے کیونکہ اس میں بھی ایک حرف کو دوسرے میں شامل کیا جاتا ہے۔

۲۔ اِدْغَامَّ اِدْغِیمَاماً بفرس: گھوڑے کا منہ، باقی جسم سے زیادہ سیاہی مائل ہونا صفت: اَدْغَم۔ الاَدْغَم جمع دُغْم: کالی ناک والا۔ الدَغَم والدُغْمَة: گھوڑے کا رنگ جس کا منہ زیادہ سیاہی مائل ہو۔

۳۔ الاَدْغَم: جمع دُغْم: ناک میں بولنے والا۔ الدُغَام: حلق کا درد۔

۴۔ دَغْمَرَ دَغْمَرَةً هُ: پر عیب لگانا، ـ الرجلُ: بدخلق ہونا، ـــ الشیءَ: کو خلط ملط کرنا، ـــ الدَغْمَرِیّ والدُغْمُرِیّ: ملے جلے اخلاق والا۔ الدَغَامِر: قوم کے رذیل لوگ۔

○ اَدْغَمَ و اِدَّغَم ه فی: کو میں رکھنا، داخل کرنا، ڈالنا، ضم کرنا، شامل کرنا، (گرامر میں) ایک لفظ کو دوسرے میں ادغام کرنا کو سے ملا دینا، اِنْدَغَم: ملنا، اکٹھا ہونا، شامل ہونا، یکجا ہونا، مجسم ہونا، ملایا جانا، آمیزش ہونا، مدغم ہونا، جذب ہونا، سکڑنا۔

دفّ: ا۔ دَفَّ -دَفًّا و دَفِیفًا: آہستہ چلنا۔ اَدَفَّ اِدْفَافاً ت علیه الامورُ: پر کاموں کا پے در پے آنا، ـــ و تَدَافَّ القومُ: بعض کا بعض کے پیچھے سوار ہونا، الدَافَّة: خانہ بدوش لوگ، دشمن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے والی فوج۔

۲۔ دَفَّ -دَفًّا و دَفِیفًا الطائرُ: پرندے کا پر پھڑپھڑانا۔ اَدَفَّ اِدْفَافًا الطائرُ: پرندے کا پر پھڑپھڑانا، ـــ اِسْتَدَفَّ الطائِرُ: پرندے کا زمین کے قریب ہوکر اڑان کرنا۔ الدَفُوفُ من الطیر: جھپٹتے وقت زمین سے قریب ہوجانے والا پرندہ۔ کہا جاتا ہے۔ عقابٌ دُفُوفٌ: عقاب جو جھپٹتے وقت زمین کے قریب آجاتا ہے۔

۳۔ دَفَّ -دَفًّا و دَفِیفًا لهُ الامرُ: کے لئے کام وغیرہ کا تیار ہونا اور ممکن ہونا، اِسْتَدَفَّ الامرُ: صحیح ہونا، درست ہونا، تیار ہونا، ممکن ہونا۔

۴۔ دَفَّ -دَفًّا الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا، دَفَّفَ و دَافَّ: جلدی کرنا، ـ الجریحَ و دَافَّ علیه: زخمی کو جھٹ پٹ مار ڈالنا۔ استدف الرجلُ الموسی: استرے سے شیو کرنا۔

۵۔ دَفَّفَ الرجلُ: دف بجانا، ـــ الدُف: جمع دُفُوف (مو): دف، دفلا۔ الدَفّ: جمع دُفُوف (مو) دف ـــ و الدَفَّة: ہر شے کا پہلو۔ کہا جاتا ہے: رماہ اللّٰہ بذات الدف ای: اللہ تعالیٰ اس کو ذات الجنب نمونیا کی بیماری میں مبتلا کرے۔ دفتا الطبل: ڈھول کے ہر دو رخ کے چمڑے جن پر بجانے کے لئے ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ الدَفّاف: دف بجانے والا دف بنانے والا۔

۶۔ الدَفّ: واحد دَفَّة: لکڑی کے تختے، الدَفَّة: چوار (یہ کلمہ مولّدہ ہے فصیح عربی السُکّان: ہے۔

۷۔ دَفْدَفَ: جلدی کرنا، ـــ الطائِرُ: پرندے کا زمین کے قریب ہوکر اڑنا۔ الدُفُوف: دف جلدی جلدی بجانا۔

○ دَفَّ -دَفِیفًا: پرندہ کا پر پھڑپھڑانا۔ دَفَّفَ: جلدی کرنا۔ دَفّ: جمع دُفُوف: پہلو، بغلی سطح، دُفّ و دَفّ جمع دُفُوف: دف، مردنگ، طنبورہ، دَفَّة: پہلو، دروازے یا کھڑکی کا ایک پٹ۔ (کتاب کی) جلد۔ الدَفَّتان: (کتاب کی) دو جلدیں (یعنی اوپر نیچے یا دونوں طرف کی جلد)، چپوار، دنبالہ، سُکّان: (کشتی چلانے اور رخ بدلنے کا آلہ)، قائِدُ الدفة یا مُدِیرُ الدَفَّة: جہاز ران، سمت بین چپوار چلانے والا، سُکّان گیر۔ قَبَضَ عَلَی دَفَّةِ التنفیذ: (کسی تنظیم) کا کنٹرول سنبھالنا، رہنما بننا، یدُ الدَفّة: کسان، کاشت کار، چرواہا، من الدفة للشابورة: سب بلا استثناء، ہر ایک، سب اکٹھے، سب مل کر۔

دفی: ا۔ دَفِیَ ءَ یَدْفَأُ دَفَأً و دَفُوًا و دَفُوءَ یَدْفُوُ دَفَاءَةً من البرد: گرم ہونا، گرمی پانا، یا گرمی محسوس کرنا۔ دَفَّأَهُ: کو گرم کرنا، اَدْفَأَهُ: کو گرم کپڑا اچھانا، تَدَفَّأَ و اِدَّفَأَ و اِسْتَدْفَأَ: گرم ہونا، گرم کپڑا پہننا۔ الدِفْءُ: جمع اَدْفَاء: سخت گرمی، اون، پوستین، سمور وغیرہ، گرمی حاصل کرنے کا سامان، (آپ کہتے ہیں۔ ما علیه دِفْءٌ: اس پر گرمی حاصل کرنے کا کوئی سامان نہیں)۔ اونٹوں سے پیدا شدہ بچے اور حاصل کردہ نفع۔ دِفْءُ الحائِط: دیوار کی پناہ کہا جاتا ہے۔ اقعد فی دِفْءِ الحائِط: دیوار کی پناہ یا اوٹ میں بیٹھ جاؤ۔ الدِفَاء: گرم کپڑے، گرمی حاصل کرنے کا سامان۔ الدَفِیء و الدفنی: مونث دَفِئَة و دَفِیئة: گرمی حاصل کرنے والا، گرم لباس پہنے ہوئے۔ الدَفِئَة من الاراضی: بہت گرم زمین۔ الدَفْآن م دَفْأَی: یعنی الدَفِیء۔ ابلٌ مُدْفِئَة و مُدْفَأَة و مُدَفَّأَة و مُدَفِّئَة و مُدْفَاة: بہت اونی اور چربی والے اونٹ۔ ارضٌ مَدْفَأَة: بہت گرم زمین۔ المِدْفَأَة: چولھا، انگیٹھی، آتش دان، ـــ و الدَفِیئة: شیشے کی عمارت جس میں گرم ملکوں کے پودے اگائے جاتے ہیں جو سردی برداشت نہیں کرسکتے۔ التَدْفِئة المرکزیّة: کمرے گرم کرنے کا مرکزی نظام۔

۲۔ اَدْفَأَهُ: کو بہت دینا۔ الدِفْء: عطیہ۔

۳۔ اَدْفَأَ الجریحَ: زخمی کو مار ڈالنا۔

۴۔ اَدْفَأَ القوم: لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔

۵۔ الاَدْفَأ: مونث دَفْأَی: وہ شخص جس کے شانے سینہ کی طرف جھکے ہوئے ہوں۔ الدَفَأ: شانوں کا سینہ کی طرف جھکنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

○ دفیۃ: ڈھیلا ڈھالا اونی چوغہ۔
○ دَفِیءَ ـَ و دَفُؤَ ـُ دَفَأً: گرم ہونا، قدرے گرم ہونا، گرم یا قدرے گرم محسوس کرنا۔ دَفَّأَ و اَدْفَأَ ہ: کو تپانا، گرم کرنا، گرمانا۔ تَدَفَّأَ و اِدَّفَأَ و اِسْتَدْفَأَ: خود گرم ہونا، قدرے گرم ہونا۔ دِفْء: گرمی، حرارت، تپش، دَفِیٔ و دَفِیء: گرم، قدرے گرم، دِفْآن: مؤنث دَفْآی: گرم، قدرے گرم، دِفَاء: گرم کرنے کا سامان، گرم کرنے کا نظام، دَفَاءَۃ: گرمی، حرارت، تپش، قدرے گرمی۔ دِفَایَۃ: جمع دِفَایَات: چولھا، انگیٹھی، آتشدان، مِدْفَا و مِدْفَاۃ: جمع مَدَافِیء: چولھا، انگیٹھی، گرم کرنے کا چولھا، انگیٹھی۔ تَدْفِئَۃ: گرم کرنے کا سامان یا نظام۔

دفت: الدَفْتَر: جمع دَفَاتِر رجسٹر، حساب کی کتاب، لکھنے کی کتاب۔

○ دَفْتَر جمع دَفَاتِر: کتابچہ، نوٹ بک، کاپی بک، بہی، روزنامچہ، کھاتہ، رجسٹر، نقشہ اوقات، بدلی جدول، سرکاری رجسٹر۔ دفتر حسابیّ: بہی کھاتہ، بنک پاس بک، پاس بک، بنک کے حساب کی کاپی، دفتر الخطابات: چٹھیوں کی مسل، فائل، چمڑے کا تھیلا، بریف کیس، دفتر الشروط: کتاب جس میں کسی خریداری، ٹھیکہ، اجارہ، پٹہ، وغیرہ کے شرائط دیئے گئے ہوں۔ دفتر الاشتراك: چندوں کا کتابچہ۔ دفتر الصندوق: کیش رجسٹر۔ دفتر المساحۃ: زمینوں کا رجسٹر، دفتر الیومیہ: ڈائری، روزنامچہ، مَسْكُ الدفاتر: کھاتہ نویسی، (Book Keeping) دفتر خانہ: دفتر خانہ، محافظ خانہ، پبلک ریکارڈز آفس، دفتر خانۃ الاملاك العقاریۃ: زمینوں کی رجسٹری کا دفتر۔

○ دِفْتِریا: خُنَاق

دفر: دَفَرَ ـَ دَفْرًاہُ: کو پیچھے دھکیلنا۔
دَفِرَ ـَ دَفَرًا و دَفْرًا: ذلیل ہونا، دَفَارِ: (مبنی علی الکسر) لونڈی، باندی اکثر نداء کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اور لونڈی کے لئے گالی سمجھا جاتا ہے۔
۲۔ دَفِرَ ـَ دَفَرًا و دَفْرًا الشیءُ: بدبودار ہونا، صفت: دَفِر و اَدْفَر مونث دَفِرَۃ و دَفْرَاء ـ اللحمُ: گوشت میں کیڑے پڑنا۔ اَدْفَرَ الرجلُ: کی بغل کا بدبودار ہونا، گندہ بغل ہونا۔ الدَفَر (مص): بدبو۔ دَفَارِ: (مبنی علی الکسر): دنیا ـ اُمّ دَفَار و اُمّ دَفْر: دنیا، مصیبت،
۳۔ الدِفْرَان (ن): سرو کی مانند ایک خوبصورت درخت، بہت اونچا ہوتا ہے، پتے چوڑے ہوتے ہیں، جبل لبنان کے دامن میں جبل الشیخ اور ترکی و یونان کے بعض خطوں میں پایا جاتا ہے۔ (سریانی لفظ)

○ دَفَرَہ: کو دھکیلنا، دھکا دیا۔ دَفِرَ ـَ دَفَرًا: بدبودار ہونا، متعفن ہونا، بدبو نکلنا، دَفَر: عفونت، بدبو، سڑاند، دَفِر: بدبودار، متعفن، سڑا ہوا گندا۔

○ دَفَسَ ہ: کو چھپانا ـ: دھکیلنا۔

دفع: ۱۔ دَفَعَ ـَ دَفْعًا و دَفَاعًا و مَدْفَعَاۃً: کو ہٹانا، دور کرنا، رد کرنا۔ ـ القولَ: کو دلیل و حجت سے رد کرنا، باطل کرنا۔ ـ عنہ الاذی: کو اذیت سے بچانا۔ ـ عن الموضع: کسی جگہ سے کوچ کر جانا، ـ الیہ: کسی جگہ پہنچنا۔ کہا جاتا ہے۔ طریق یدفع الی مکان کذا: راستہ جو فلاں جگہ تک پہنچتا ہے۔ ـہ الی کذا: کو پر مجبور کرنا۔ ـہُ فی کذا: کو میں داخل کرنا دُفِعَ الی المکان: کسی جگہ تک پہنچنا۔ دَافَعَ مُدَافَعَۃً و دفاعا عنہ: کی حمایت کرن، مدد کرنا۔ ـ عنہ الاذی: سے اذیت دور کرنا، ـہُ: کی مزاحمت کرنا، کو روکنا، سے مزاحم ہونا۔ ـہُ عنہ حقہ: کو اس کا حق دینے میں ٹال مٹول کرنا۔ تَدَفَّعَ السیلُ: سیلاب کا زور سے بہنا، امڈنا۔ تَدَافَعَ القومُ: بعض کا بعض کو ہٹانا، ایک دوسرے کو دھکیلنا۔ تَدَافَعُوا الشیءَ: کو ایک دوسرے کے ذمے لگانا۔ کہا جاتا ہے۔ ضیف یتدافعہ الحیُّ: وہ مہمان جس کو قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے ذمے لگائیں ایک دوسرے پر ٹالیں۔ اِنْدَفَعَ الرجلُ: ایک طرف ہونا۔ ہٹنا۔ ـ الفرسُ فی سیرہ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ ـ السیلُ: سیلاب کا زور سے بہنا، ـ الرجل فی الحدیث: بات چیت میں لگنا۔ ـ یقول: کہنے لگنا۔ اِسْتَدْفَعَ اللّٰہَ الشرَّ: اللہ تعالیٰ سے برائی ٹالنے کی التجا کرنا۔ الدَفْعَۃ دفع کا اسم مرۃ الدُفْعَۃ جمع دُفَع و دُفُعَات: بارش کی بوچھاڑ۔ مشک یا برتن سے ایک مرتبہ گری ہوئی چیز کی مقدار۔ الدَوَافِع: نشیبی علاقے جہاں سیلابوں کا پانی جمع ہو جائے۔ الدَفُوع: بہت ہٹانے والا ـ من الدوابّ: لات مارنے والا جانور۔ الدَفَّاع: بہت ہٹانے والا۔ الدِفَاع (اع): دشمن کے حملوں کو روکنے کے طریقے اور اسلوب دفاع، الدفاعُ البَحْرِیّ: ساحلی توپ خانہ سے دفاع۔ الدِفَاعُ البَرِّی: بری دفاع (قلعوں، خاردار، تاروں وغیرہ سے) ـ الجَوِّیُّ: فضائی دفاع (جہازوں، فوجی گاڑیوں؛ بیرکوں کو دشمن کی نظروں سے چھپانے اور طیارہ شکن توپوں کے ذریعے) ـ السَلَبِیّ: ہوائی حملوں سے شہری آبادی کا بچاؤ، ـ المَدْفَع: جمع مَدَافِع: پانی جمع ہونے کی جگہ۔ المِدْفَع: بہت ہٹانے والا۔ جمع مَدَافِع: ہٹانے کا آلہ، بندوق، توپ، المِدْفَع الرشّاش: مشین گن۔ الذَرِی: ایٹمی بم پھینکنے والی برقی توپ۔ غیر المُرتَدّ: توپ جو فوجی پیٹھوں پر لیجاتے اور کندھوں پر رکھ کر چلاتے ہیں۔ ـ قاذف الصواریخ: راکٹ انداز (Rocket Launcher) مِدْفَعُ الاقتحام یا مدفع الھجوم: پیدل یا گاڑیوں میں لیجائے جائے والی فوج کے ساتھ جانے والی توپ۔ ـ الھاون: اونچا گولہ پھینکنے والی چھوٹی توپ (Mortar) المِدفَعُ المضاد للطائرات طیّارہ شکن توب: (Anti Aircraft Gun) الدُفَّاع: موج یا سیلاب کا زور۔ لوگوں کی بھیڑ یا ہجوم۔ کہا جاتا ہے۔ جاءَ فی دُفَّاعٍ من الناس: وہ لوگوں کے ہجوم میں آیا۔ المُدَفَّع: وہ ذلیل و حقیر فقیر جس کو نہ کوئی مہمان رکھے نہ بخشش ملے۔ المِدْفَعِیَّۃ (اع): توپ خانہ اس کی قسموں میں سے بعض یہ ہیں۔ المدفعیۃ البریۃ والمدفعیۃ الجبلیہ و مدفعیۃ الشاطی: بری توپ خانہ، پہاڑی توپ خانہ، ساحلی توپ خانہ۔
۲۔ دَفَعَ الیہ الشیءَ: کو کوئی چیز ادا کرنا۔

○ دَفَعَ ـَ دَفْعًا ہ / ہ عن: کو سے ہٹانا، دھکیلنا، دھکا دینا، دور کرنا، نکالنا، ہانکنا، ہانک کر لیجانا، لے جانا، پیچھے ہٹانا، دَفَعَہُ جانبًا: کو ایک طرف کرنا۔ دفع ہ عن نفسہ: سے نجات حاصل کرنا، جان چھڑانا، پیچھا چھڑانا ـ ہ / ہ: سے بازی لے جانا، پر فتح پانا، کو شکست دیا، پر قابو پانا، ـ ہ ب: سے کے ساتھ لڑنا، لڑائی کرنا۔ ـ ہ: کو مسترد کرنا، نہ ماننا، کو غلط ثابت کرنا، کی تردید کرنا، تغلیط کرنا، کو آگے دھکیلنا، چلانا، ـ ہ / ب الی / ل: پر کے لئے زور دینا، کو پر آمادہ کرانا، ابھارنا، کو پر اکسانا، سے کوئی کام کرنا، کو کی ترغیب دینا، سے کوئی کام کرانے کے لئے قوت کا استعمال کرنا، کو پر مجبور کرنا، سے کوئی کام کرانا۔ ـ ہ الی / ل: کو کے حوالے کرنا، کو کی خدمت میں پیش کرنا، کوئی چیز کسی کو سونپنا، کوئی چیز کسی کے ہاتھوں میں دینا، ـ ثمنًا ل / الی: قیمت کسی کو ادا کرنا۔ دَفَعَ خُطَاہُ الی: کی راہ لینا۔ دَافَعَ ہ / ہ: کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جمے رہنا، کا مقابلہ کرنا، کی مدافعت کرنا، مقاومت کرنا۔ ـ ہ عن: کی مخالفت کرنا تاکہ وہ کسی کام سے رک جائے۔ کو سے باز رہنے کیلئے کہنا، ـ ہ: کو کچل دینا، دبا دینا، ختم کر دینا، ـ عن: کی حفاظت کرنا، کو بچانا، کی حمایت کرنا، تائید کرنا، کا دفاع کرنا، کو برقرار رکھنا، کا دفاع سپرد کیا جانا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تَدَفَّعَ اچانک یا تیزی سے آگے کی طرف بڑھنا، لپکنا، تیزی سے جانا، (پانی کا) بہنا، زور سے بہنا، زور سے پھوٹ نکلنا، (خیال سماجی رجحان وغیرہ) یکا یک اٹھ بیٹھنا محسوس ہونا، تَدَافَعَ: ایک دوسرے کو دھکیلنا دھکا دینا، دور یا ایک طرف ہٹانا، ۔۔عن: سے دھکیلا جانا، وقفہ وقفہ سے پھوٹ نکلنا، زور سے لگنا، ۔۔ من: سے تیزی سے جانا، ۔۔ آگے کو دھکیلا جانا، آگے کی طرف لے جایا جانا، چلنا۔ اِنْدَفَعَ: تیزی سے بڑھنا، لپکنا، جانا، تندی سے تیزی سے، بےدھڑک، بے سمجھے بوجھے، اندھوں کی طرح یا پیش بینی کے بغیر آگے بڑھنا، بہت تیز ہونا، بہت جوشیلا یا تیز مزاج ہونا، ۔۔فی: میں یکا یک سر کے بل یا اندھا دھند کود پڑنا۔۔ الی: کی طرف تیزی سے جانا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر، دبوچ لینا، کے پاس جلدی سے جانا، ۔ل: اپنے آپ کو کسی کے سامنے گرفتاری وغیرہ کے لئے پیش کرنا، ۔۔ من: سے پھوٹ نکلنا، بہنا، جاری ہونا، دھار بن کر نکلنا، پھوٹ بہنا، یکا یک نکلنا، (پانی کا) اندفع وراء: سے مغلوب ہو جانا، (جیسے ۔۔ وراء شهواته: اپنی جسمانی خواہشات سے) ۔۔ وراء شعوره: اپنے احساسات سے وراء العاجلة: دنیاوی چیزوں سے مغلوب ہو جانا، بےخود ہو جانا۔ يفعل: کچھ کرنے لگنا، اِسْتَدْفَعَ ه ب: سے کے ذریعہ بچنے کی کوشش کرنا، کو سے روکنے کی کوشش کرنا، دفع: پیچھے دھکیلنا، ایک طرف کرنا، پسپا کرنا، دور لیجانا، دور کرنا، زائل کرنا، دفع کرنا، اڑا لیجانا، روکنا، ٹال جانا، کو روکنا، (سے) بچنا، پسپا کرنا، استرداد، نامنظوری، قطع تعلق، انکار، تردید، تغلیط حوالے کرنا، ادائیگی، دُفْعَة: جمع دُفُعات و دُفَعات: ایک بار جاری ہونے والا، سرتوڑ زور، پھٹنا، دھماکہ، غیر متوقع وقوع، پھوٹنا، شق ہونا، غلغلہ: فوارہ، ولولہ، جوش، زور وغیرہ وقت، واقعہ، دُفْعَةً واحدةً: بیک وقت، دفعۃً، یکا یک، اک دم، جھپٹا مار کر۔ هذه الدفعة: اس بار اس دفعہ۔ ثبتَ دُفُعات: چھ بار، مرتبہ، دفعہ على دفعات مُتَفَاوِتة: مختلف اوقات میں۔ دَفَّاع: آگے کو دھکیلنے والا، دھکیلنے والا تحریک دینے والا پسٹن (Piston) مِدْفَع: جمع مَدافِع: بندوق، رائفل، توپ، مَدَافِع بعيدة المَرْمَى: دور مار رائفلیں، توپیں، مِدْفَع رشاش: مشین گن، مَدَافِعُ ضَخْمَة: بھاری توپ خانہ، بھاری توپیں۔ المدافع المضادة للطائرات یا المدافع المقاومة للطائرات: طیارہ شکن توپیں۔ مدفع ثلاثي مضادٌ للطائرات: تین نالی طیارہ شکن توپ، مدفع هاون: مارٹر (mortar)، چھوٹی بالا انداز توپ۔ مِدْفَعِي: بندوق کا، رائفل کا، توپ کا، توپ خانہ کا، توپچی، توپ خانہ کا سپاہی، مِدْفَعِيَّة: توپ خانہ، توپیں۔ دِفَاع: حفاظت۔ ۔۔ عن: کا دفاع، خطُّ الدفاع: خط دفاع، دفاعی خط، دفاعی لائن، ہاف بیک (Half Backs) مجلس الدفاع: دفاعی کونسل، وزارة الدفاع وزارت دفاع، وزارت جنگ۔ الدفاع الوطني: قومی دفاع، ملکی دفاع، الدفاع المضاد للطائرات: طیارہ شکن دفاع، شرعيٌّ: جائز یا قانونی حفاظت ذات، دِفَاعِيّ: مدافعانہ، دفاعی، محافظ، مُدَافَعَة عن: کا دفاع، اِنْدِفَاع: جمع اندفاعات في: میں یکا یک کود پڑنا، چھلانگ یا چھلانگ لگانا۔ پھٹ پڑنا، پھوٹ پڑنا، پھٹنا، قوت، ولولہ، جوش جھپٹ، تیز حرکت، پرجوش عمل، تیزی، اندھا دھند کام کرنا، جلد بازی، عاقبت نا اندیشی، تیز مزاجی، جوشیلا پن، بہتات، کثرت، افراط، ریل پیل، پرزور ہونا، اپنے آپ سے بے انتہا لاپروائی، اِنْدِفَاعًا: خود بخود طبعی طور پر، اِنْدِفَاعَة: (اچانک) پھوٹ پڑنا، شروع ہو جانا، (گریہ وزاری کا) دَافِع: مارنے کو خارج کرنے والا، دافع، دفع کرنے والا، پیچھے ہٹانے والا، ہانکنے والا، لیجانے والا، دھکیلنے والا، دھکا دینے والا، قوت دینے والا، تیزی دینے والا، محرک، ترغیب دینے والا، باعث اشتعال، حرکت میں لانے کی قوت رکھنے والا، دھکیلنے یا چلانے والا، آگے بڑھانے والا، دھکا دیکر بڑھانے والا، جوش دلانے والا، پسپا کرنے والا، ادا کرنے والا ادائیگی کرنے والا، جیسے دافع الضرائب: ٹیکس دینے والے، ٹیکس ادا کرنے والے (جمع دوافع) محرک تحریک، مہمیز، وجہ تحریک، سبب حرکت، نیت، منشا، مقصد، بِدَافِع: سے تحریک پاکر، کی وجہ سے، کے باعث کی سند سے بسند، مَدْفُوعات: ادائیگیاں۔ مُدَافِعٌ عن: کا حامی، محافظ، ناصر۔

دفق: ا۔ دَفَقَ ـُ دَفْقًا الماءَ: پانی کو زور سے گرانا، ۔۔ الكوزَ: کوزے کی چیز کو گرا کر خالی کرنا۔ ـِ دَفْقًا و دُفُوقًا الماءُ: پانی کا گرنا۔ النهرُ: دریا کا لبالب بھر کر پانی کناروں سے باہر نکلنا، (لیث نے تن تنہا اسے لازمی استعمال کیا ہے جبکہ جمہور کے نزدیک یہ متعدی استعمال ہوتا ہے)۔

دَفَّق: دفق سے مبالغہ کا صیغہ۔ کہا جاتا ہے: دَفَّقَتْ كَفَّاهُ العطاءَ: اس کے دونوں ہاتھوں نے بخشش بکثرت لٹائی۔ اَدْفَقَ الكوزَ: کوزے کو چیز سے خالی کر دینا۔ تَدَفَّقَ الماءُ: پانی کا گرنا۔۔ ت الدابَّةُ: جانور کا تیز دوڑنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يَتَدَفَّقُ في الباطل فلاں شخص باطل میں تیزی و سبقت کرتا ہے۔ اِنْدَفَقَ الماءُ: پانی کا گرنا۔ اِسْتَدْفَقَ الماءُ: پانی کا گرنا۔ الدُّفْقَة: ایک دفعہ یکبارگی۔ کہا جاتا ہے جاؤوا دُفْقَةً: وہ سب ایک دم آگئے۔ سَيْلٌ دُفَاقٌ: زبردست سیلاب جو وادی کو دونوں کناروں تک بھر دے۔ سيرٌ اَدْفَقُ: مونث دَفْقاء: تیز رفتار۔ الدِفِقَّى: تیز چال (کہا جاتا ہے: مشى الدِفِقَّى: وہ تیز چال چلا) ۔۔ و الدِفِقَّة: تیز چلنے والی اونٹنی یا گھوڑا۔

۲۔ دَفَقَ ـُ دَفْقًا الله روحه: اللہ تعالیٰ کا کسی کو موت دینا۔

۳۔ الاَدْفَق: مونث دَفْقَاء: ٹیڑھا، کوزہ پشت (خواہ غم و فکر سے یا بڑھاپے کے سبب)۔

○ دَفَقَ ـُ دَفْقًا ه: کو انڈیلنا، بہانا، دھار باندھ کر ڈالنا، گرانا، ۔ ـِ دَفْقًا و دُفُوقًا: گرنا، بہنا، پھوٹ نکلنا، دھار بن کر نکلنا، پھوٹ بہنا، زور سے نکلنا ۔۔ ه: میں بکثرت ہونا، تَدَفَّقَ: گرنا، بہنا، پھوٹ نکلنا، دھار بن کر نکلنا، پھوٹ بہنا، زور سے نکلنا، تیزی سے جانا، یکا یک پھیلنا، زور سے داخل ہونا، توڑ کر نکل جانا، گولی چلنا، چھوٹنا، ۔۔ الی/في: میں اندھوں کی طرح یا بے سوچے سمجھے کود پڑنا، ۔ على: میں ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا، اِنْدَفَقَ: بمعنی تدفق۔ دُفَق: چھلک جانا (بھر کر)، بہاؤ۔ دُفْقَة: جمع دُفُقات و دُفْقات: بمعنی دفعةً۔ دُفْقَةً واحدةً: بمعنی دفعة واحدة۔ دفقات الريح: ہوا کے جھکڑ۔ دفقة من الماء: پانی کا پھوٹ نکلنا یا زور سے نکلنا، دَفَّاق: زور سے پھوٹ پڑنے والا، یکا یک ظاہر ہونے والا، تیزی سے لڑنے والا، دوڑ پڑنے والا۔ تَدَفُّق: بہہ نکلنا، بہہ جانا، آگے بہہ نکلنا، نکلنا، جاری ہونا، پھوٹنا، روانی، خروج، بہاؤ، پھیلاؤ، باہر کی جانب بہاؤ، مدو جزر، ریل پیل، زیادتی ہجوم، بہتات، روانی، رفتار، جھپٹنا، ٹوٹ پڑنا، گھس جانا، دوڑ، جھپٹ، ہلہ، گرم بازاری، امنڈ آنا، امنڈ کر آنا، سیلاب پھوٹ پڑنا، ابل پڑنا، جلد بازی، اضطراری حالت، لبریزی، فراوانی، وفور، پرجوش پرزور ہونا، بہانے والا ہونا، دافِق: جمع دَوَافِق: پھوٹ بہنے والا، پھوٹ پڑنے والا، ابل پڑنے والا، نکلنے والا، پھٹنے والا، پھوٹ نکلنے والا، ابلنے والا، زور سے اچھلنے والا، فوارہ کی طرح بہنے والا، طوفان کی طرح اٹھنے والا، سیلاب کا سا، بہت زور کا، تند، پرشور، مُتَدَفِّق: محرک، تحریک کنندہ، جلد باز، فراوان، لبریز،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بافراط، بہت، بکثرت، پرجوش، پرزور۔

دفل: الدِفْلُ: تارکول، رال، گندہ بروزہ، قطران، کولتار، بجروم کی ایک جھاڑی جس میں سرخ سفید یا پیازی رنگ کے پھول لگتے ہیں اور پتے سخت ہوتے ہیں۔ الدِفْلٰی (ن): کنیر۔ اس کا الف مقصورہ بعض کے نزدیک الحاقی ہے لہٰذا اس پر تنوین تنکیر آجائے گی اور بعض کے نزدیک تانیث کا ہے لہٰذا تنوین نہیں آئے گی۔

دفن: ۱- دَفَنَ-دَفْنًا المیتَ: مردہ کو دفن کرنا۔ ۔ الحدیثَ: بات کو چھپانا، تَدَفَّنَ و اِنْدَفَنَ: چھپنا۔ تَدَافَنَ القومُ: ایک دوسرے سے چھپانا، اِدَّفَنَ العبدُ: غلام کا آقا کے خوف سے بھاگ کر روپوش ہونا صفت: دفُون۔ ۔ الشیءَ: کو چھپانا، الدَفْن: جمع اَدْفَان: دفن کیا ہوا۔ ۔ جمع دُفْن: مدفون زمین۔ داءٌ دِفْنٌ و دِفِنٌ و دَفِینٌ: وہ بیماری جو پوشیدہ ہونے کے بعد ظاہر ہو کر خرابی پیدا کرے۔ دَافِنُ الامرِ: معاملہ کا اندرونی حصہ۔ الدَفِین: جمع دُفْن و دُفَنَاء و اَدْفَان: دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا، دفن شدہ، حوض۔ امرأۃٌ دَفِینٌ: جمع دَفْنٰی: چھپی ہوئی عورت۔ رَکِیَّۃٌ دَفِینٌ: دفن کیا ہوا کنواں۔ کہا جاتا ہے: ھو دفینُ المروءۃ او دَفْنُ المروءۃ: وہ بے مروت ہے۔ الدِفَان: جمع دُفْن من الرکایا: وہ کنواں جس کا کچھ حصہ مٹی کے نیچے دب گیا ہوا۔ ماءٌ دِفَانٌ: پوشیدہ پانی۔ مدفون پانی۔ المَدْفِن: دفن کرنے کی جگہ۔ الدَفِینَۃ: جمع دَفَائِن: گاڑی ہوئی چیز، خزانہ (زمین میں گڑا ہوا) کہا جاتا ہے۔ فلانٌ یُثِیرُ الدَفائِنَ: وہ بڑی گہری عقل و سمجھ والا ہے۔ الدَّفَانۃ (ز): زمین کے درمیان چٹان جس میں ہل کی پھال پھنس کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: الدفانۃ تکسر السکّۃ: چٹان ہل کا پھل توڑ دیتی ہے۔ یعنی پوشیدہ نیت کا اس شخص سے چھپانا جو اس سے واقف نہ ہو، تکلیف دہ ہوتا ہے۔

۲- دَفَنَ-دَفْنًا الابلَ: اونٹوں کو تیز چلانا، ۔ت الابلُ: اونٹوں کا تیز چلنا۔ تَدَفَّنَ و اِنْدَفَنَت الابلُ: اونٹوں کا تیز رفتار سے چلنا۔

۳- الدفینۃ: چالاک، ذہین، سمجھدار، ماہر، آزمودہ کار، الدَّفَافِین: واحد دَفَّان: کشتی کے تختے۔ المَدْفُونَۃ (ط): سبزی اور چاول سے پکایا ہوا ایک قسم کا کھانا۔

۴- الدِفْنِس و الدِفْنَاس: بے وقوف، کمینہ، ۔ من النساء: احمق، بھاری جسم کی عورت۔

○ دَفَنَ-دَفْنًا ہ: کو دفن کرنا، مٹی میں دبانا، گاڑنا، کو قبر میں اتارنا، مٹی دینا، ۔ ہ: کو چھپانا، پوشیدہ رکھنا، دَفَّنَ: دفن کرنا، قبر میں اتارنا، تدفین، مٹی میں دبانا، کفن دفن، دَفِین: جمع دُفَنَاء: دفن کیا ہوا، قبر میں اتارا ہوا، مٹی میں دبایا ہوا، چھپایا ہوا، پوشیدہ دَفِینَۃ: جمع دَفَائِن: چھپایا ہوا خزانہ، دفینہ جو زمین سے برآمد ہوا اور جس کے مالک کا پتہ نہ ہو۔ مَدْفَن: جمع مَدْفَنَۃ: جمع مَدَافِن: دفن کرنے کی جگہ، قبرستان، گورستان۔

دفا: ۱- دَفَا- دَفْوًا و دَافَی مُدَافَاۃً و اَدْفَی اِدْفَاءً الجریحَ: زخمی کو جلد مار کر ختم کر دینا۔ تَدَافٰی ہ: کا تدارک کرنا، کی تلافی کرنا۔

۲- اَدْفٰی الظبیُ: ہرن کا لمبے سینگوں والا ہونا۔ طائرٌ اَدْفٰی: لمبے بازؤوں والا پرندہ۔ ناقۃٌ دَفْوٰی: لمبی گردن والی اونٹنی۔ شجرۃٌ دَفْوَاء: بڑا درخت۔

۳- الدَفَا: خمیدگی، جھکاؤ، الاَدْفٰی: مؤنث دَفْوَاء: خمیدہ، ٹیڑھا، منحنی، عُقَابٌ دَفْوَاء: ٹیڑھی چونچ والا یا مڑی ہوئی چونچ والا عقاب۔

○ دفایۃ: دیکھو دفیء

دق: ۱- دَقَّ-دِقَّۃً: باریک ہونا، چھوٹا ہونا۔ ۔ دَقًّا الشیءَ: کو توڑنا۔ ۔ البابَ: دروازہ کھٹ کھٹانا۔ ۔ الشیءَ علی الشیءِ او بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری چیز پر کوٹنا، کچلنا، دَقَّقَ الشیءَ: کسی چیز کو کوٹ کر باریک کرنا، کسی چیز کو باریک کوٹنا، اَدَقَّ اِدْقَاقًا ہ: کو باریک کرنا۔ ۔ الرجلُ: بخل سے حقیر چیز کا پیچھا کرنا۔ اِنْدَقَّ اِنْدِقَاقًا: باریک ہونا، ٹوٹنا، کھٹکھٹایا جانا۔ ۔ت عنقُہٗ: کی گردن ٹوٹ جانا۔ اِسْتَدَقَّ اِسْتِدْقَاقًا: باریک یا پتلا ہونا۔ استدق الھلالُ: چاند کا باریک ہونا، الدِق: باریک، تھوڑا۔ اسی سے ہے: اَخَذْتُ دِقَّہٗ و جِلَّہٗ: میں نے اس کا تھوڑا بہت سب لے لیا۔ حُمَّی الدِق: دق کا بخار۔ الدُقَّۃ: باریک خاک، مصالحے، نمک، دھنیا، الدَقَّۃ: دق سے اسم مرۃ، ایک دفعہ کا توڑنا، باریک کرنا، کھٹکھٹانا۔ الدِقَّۃ: توڑنے کی حالت، کھٹکھٹانے کی حالت۔ باریکی، چھوٹا پن، کمینگی، المِدَقّ و المُدُقّ: جمع مَدَاقّ و المُدُقَّۃ (ط): باریک کوٹا ہوا گوشت جو بھون لیا گیا ہو۔ کباب، عام لوگ اسے کُفْتَۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ (کوفتہ)
الدُقَاق: ہر شے کا چورا، آٹا، ۔ و الدُقَاقَۃ: نرم خاک جسے ہوا زمین سے اڑا لیجائے۔ دُقَاقُ و دِقَاقُ العیدان: لکڑی کی چھٹیاں۔ الدقیق: جمع اَدِقَّۃ و اَدِقَّاء مؤنث دَقِیقَۃ: باریک، آٹا، تھوڑا۔ الدَقِیقَۃ: جمع دَقَائِق: الدقیق کا مؤنث: منٹ، گھنٹے کا ساٹھواں [illegible] الدَقَّاق: [illegible] آٹا [illegible] والا۔ الدَقَّاقَۃ: کوٹنے کا اوزار۔ المِدَقَّۃ: کوٹنے کی موصلی یا دستہ، چھوٹی شیشی (عام لوگوں کی زبان میں) (ن) پھول کا مادہ عضو تناسل۔ المَدْقُوق (مفع): دق کے بخار کا مریض، دق کے بخار میں مبتلا، مُسْتَدَقُّ الساعِد: کلائی کا پہنچے سے ملنے والا حصہ، ۔ کلِّ شیءٍ: ہر شے کا باریک اور پتلا حصہ۔

۲- دَقَّ-دِقَّۃً: دشوار فہم ہونا، الدِقَّۃ (مص): ابہام، مبہم بات، اسی سے ہے۔ دِقَّۃُ المعانی: معانی کی باریکی، الدَقِیق: جمع اَدِقَّۃ و اَدِقَّاء: مونث دقیقۃ: دشوار فہم امر۔

۳- دَقَّ-دَقًّا الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ دَقَّقَ فی الحساب وغیرہ: حساب وغیرہ میں گہرے غور و فکر سے کام لینا۔ دَاقَقْتُ مُدَاقَّۃً الحسابَ و فی الحساب: میں نے اس سے پورے غور و فکر سے حساب لیا۔ تَدَاقَّ الرجلان: آپس میں باریکی میں مقابلہ کرنا۔ الدِقَّۃ: باقاعدگی، باضابطگی، درستی، باریک بینی، التدقیق عند العلماء: دلیل کا دلیل سے اثبات یا مسئلہ کا ایسی دلیل سے اثبات جو دشوار فہم ہو۔ چونکہ تحقیق مسئلہ کا دلیل سے اثبات ہے۔ اس لئے مُدَقِّق مُحَقِّق سے درجہ میں بالاتر ہے۔

۴- اَدَقَّ اِدْقَاقًا الرجلَ: کو بکری یا بکریاں دینا، کہا جاتا ہے: اتیتہٗ فما اَدَقَّنِی ولا اَجَلَّنِی: میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھ کو تھوڑا بہت کچھ نہیں دیا۔ الدَقِیقَۃ: بکریاں کہتے ہیں۔ کم دَقِیقَتُکَ: تمہاری کتنی بکریاں ہیں۔

۵- دَقْدَقَ دَقْدَقَۃً الناسُ: لوگوں کا شور و غل مچانا۔ ۔ الدوابُّ: جانوروں کے سموں کی آواز سنائی دینا۔

○ دَقَّ-دِقَّۃً: باریک ہونا، عمدہ ہونا، کمزور ہونا، نازک ہونا، بودا ہو، آسانی سے ٹوٹ جانے والا ہونا، جلد خراب ہو جانے والا ہونا، نازک بناوٹ والا ہونا، ناپائدار ہونا، چھوٹا ہونا، تھوڑا ہونا، ننھا سا ہونا، خفیف ہونا، ذرا سا ہونا، گہرا ہونا، بالکل ٹھیک ہونا، ہلکا ہونا، سبک ہونا، لطیف ہونا، باریک بین، دیدہ ریزی کرنے والا ہونا، غیر اہم ہونا، ادنیٰ سا ہونا، ناچیز ہونا، ناقابل لحاظ ہونا، ناقابل غور ہونا، ۔ عن: اور ادراک کے لئے بہت لطیف و نفیس ہونا، بہت نازک ہونا۔ ۔ دَقًّا ہ: کو مسلنا، پیسنا، کچلنا، پامال کرنا، کو گزند پہنچانا، خراش لگانا، زخمی کرنا، کو کوٹنا، پیٹنا، مارنا، ہاون دستے سے کوٹنا، ریزہ ریزہ کر دینا، پیس ڈالنا، میدہ بنانا، سرمہ کر دینا، خاک میں ملا دینا، کا سفوف بنانا، (گوشت) کوٹنا، گھڑی یا گھنٹے کا (وقت) بجانا، (جیسے گھنٹے نے ۱۲ بجائے)

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(دل کا) دھڑکنا، (انجن کا) دھڑ دھڑ کرنا) ـــ الباب:
دروازہ کھٹکھٹانا، دستک دینا۔ ـ راسَهُ بالحائط: دیوار
سے سر ٹکرانا، دیوار سے سر دے مارنا، ــــ ہ: (کیل)
ٹھونکنا، ـــ علی (کوئی موسیقی کا آلہ) بجانا، (ٹائپ
رائٹر) پر ٹائپ کرنا ـــ دَقَّق الجرسَ: گھنٹی بجانا،
دقت الساعةُ: گھڑی کا وقت بجانا، دق جرسَ
الخطر: آلارم بجانا، دق الجرسَ علی: کوٹیلی
فون کرنا۔ دق الجرسُ: گھنٹی بجنا۔ دَقَّق ہ: کو پیس
کر سفوف بنا دینا، کو پیسنا، کا میدہ بنانا، کو خاک میں ملا
دینا، کو سفوف میں تبدیل کر دینا، ـــ فی: میں ٹھیک
ٹھیک ہونا، صحیح ہونا، درست ہونا، قطعی ہونا، سخت محتاط
ہونا، صحیح ہونا، جفاکش ہونا، انتہائی درستی یا احتیاط سے
آگے بڑھنا۔ ـ ہ: کو جانچنا، کی تحقیقات کرنا، کا جائزہ
لینا، کا صحیح تعین کرنا، (کوئی کام احتیاط اور صحت و درستی
سے کرنا، دَقَّقَ البحثَ: احتیاط سے تحقیقات کرنا،
چھان بین کرنا، تفتیش کرنا، تلاش کرنا، کھوج نکالنا،
دَقَّقَ النظر فی: کو توجہ یا احتیاط سے نظر میں رکھنا، کو
جانچنا کی دیکھ بھال کرنا، کا امتحان کرنا، کی تحقیقات کرنا،
کا دھیان یا غور سے جائزہ لینا۔ دَقَّقَ الملاحظةَ: غور
سے یا دھیان سے دیکھنا، یا مشاہدہ کرنا، ـــ داقق ہ:
حزم و احتیاط سے کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ اَدَقَّ ہ:
کو باریک کرنا، عمدہ و نفیس بنانا، اِنْدَقَّ: کچلا جانا، کوٹا
جانا، ٹوٹنا، پیٹا جانا، ہاون دستے سے کوٹا جانا۔ اِنْدَقَّ
عُنُقُهُ: اس نے اپنی گردن توڑ لی۔ اِسْتَدَقَّ: باریک
اور نفیس ہونا یا ہو جانا، دَقٌّ: کچلنا، خراش ڈالنا، رگڑنا،
زخمی کرنا کوٹنا، پیٹنا، مارنا، ہاون دستے سے کوٹنا، سفوف
کر دینا، سرمہ بنا دینا، ریزہ کرنا، تحلیل، پسائی، سفوف
بن جانا، باریک پیسنا، چھل ڈالنا، کچومر نکالا دینا، بھرکس
نکال دینا، دھڑکن دھڑکنا، دھڑ دھڑ کرنا، دستک دینا،
دروازہ کھٹکھٹانا، جسم کو گود کر نقش بنانا، دقُّ الجرسِ:
ٹن ٹن، گھنٹی کی جھنکار، گھنٹی کی آواز۔ دَقُّ الحَنَك:
بک بک، چپڑ چپڑ، کھٹ کھٹ، کٹ کٹ، طفلانہ
گفتگو۔ دِقّ: عمدہ، نفیس، باریک تھوڑا، چھوٹا، ننھا سا،
حقیقت، بہت چھوٹا سا، بالکل معمولی، ذرا سا، بالکل
ٹھیک، نازک، بودا، کمزور، آسانی سے ٹوٹ جانے
والا، جلد خراب ہو جانے والا، نازک بناوٹ والا،
ناپائیدار، مریض، شجرُ دِقّ: جھاڑیاں، جھاڑ
جھنکاڑ، حمّی الدِقّ: دق کا بخار۔ دَقَّة: جمع دَقّات
دستک، دھڑکن (دل کی)، دھڑ دھڑ (انجن کی) گھنٹے کا
بجنا، گھن، ہتھوڑا، موگری، ٹھونکنے ہتھوڑے سے یا گھن
سے مارنے کی آواز، گھونسا، دھپا، تھپڑ، گھونسا مارنا، دھپا
مارنا، دقّات القلب: دل کی دھڑکنیں، دقّة الجرس:
گھنٹی کی آواز، ٹیلیفون کی گھنٹی، دِقَّة: باریکی،
نفاست، عمدگی، قلت، کمی، ہلکاپن، چھوٹاپن، باریک
بینی، دقیقہ سنجی، فقیر ہونا، کمینہ پن، فرومایگی، کم
مائیگی، بے حقیقت ہونا، معمولی ہونا، لطافت، نزاکت،
پراندیشہ یا خطرناک حالت، نازک، صورت حال،
درستی، صحت، مطابقت، باقاعدگی، بدقة: بعینہ، ہوبہو،
درستی سے، صحت کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، من وعن،
بالکل ٹھیک، نکتہ، موشگافی سے، محنت سے جفاکشی سے،
سخت احتیاط سے، سختی سے تیزی سے، دِقَّة الشعور:
احساس کی شدت، زود حسی، سریع الحسی، ذہانت،
فراست، عقل و شعور، دُقَّة: جمع دُقَق: عمدہ یا نفیس
خاک، پاؤڈر، دُقَاق: کچلا ہوا، کوٹا ہوا، پیٹا ہوا یا پیسا
ہوا، سفوف بنا ہوا، یا میدہ بنایا ہوا مادہ، پاؤڈر، لوپن
پودے کا آٹا (لوپن Lup in or Lupine)
باغوں میں اگنے والا ایک پودہ ہے۔ اس کا تنا لمبا اور
نوکیلا ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مختلف رنگ
کے پھول لگتے ہیں۔

دَقِیق: جمع دِقَاق و اَدِقَّة: عمدہ، نفیس، باریک، نازک،
ناپائیدار، بودا، کمزور، بیمار، آسانی سے ٹوٹ جانے
والا، جلد خراب ہو جانے والا، نازک بناوٹ والا،
چھوٹا، تھوڑا، ننھا سا، حقیر، ادانی، خفیف، بہت چھوٹا سا،
بالکل معمولی، ذرا، بالکل ٹھیک، ہلکا، لطیف، بے
حقیقت، قلیل، معمولی، سطحی بے کیف، ناچیز،
ٹھیک، صحیح، بے کم و کاست، باقاعدہ، باضابطہ، بالکل
واضح، صاف، قطعی، درست، محنتی، جفاکش، محتاط،
باریک بین، صحت پسند، صداقت پسند، جزئیات کا
خیال رکھنے والا، سخت محتاط، بہت زیادہ غور و خوض سے
کام لینے والا، سخت بے رحم، سنگدل، بے مہر، سخت،
کٹھن شدید، نازک (صورتحال) پراندیشہ، تشویشناک
بحرانی، تکلیف دہ، دشوار، صبر آزما، سنجیدہ، مخدوش،
قابل فکر، پرخطر، خطرناک، مشتبہ، آٹا، بیسن، نشاستہ،
ستو، غذا۔ دقیق الحساب: سخت حساب رکھنے والا،
سخت، بے رحم، دقیق الشعور: ذی حس، حساس،
زود رنج، زود اثر، دقیقُ الصُنْع: عمدہ طور پر یا
نفاست سے کیا ہوا، نازک کاریگری کا۔ دقیقُ النظر:
صاف دیکھنے والا، زود فہم، معاملہ فہم، دانشمند، صاحب
بصیرت، زیرک، ہوشیار، ذی شعور، ذی حس، حساس۔
ابو دقیق: تتلی۔ الاعضاءُ الدقیقة: اعضاء تناسل،
دَقِیقَة: ذرہ، ٹکڑا، ریزہ، خفیف مقدار، غیر معمولی
چھان بین، باریکی، نزاکت، نازک فرق، احتیاط، اشکال،
الجھاؤ، دشواری، پیچیدگی، تفصیل، مفصل، کیفیت،
منٹ، دقائق الامور: معاملات کی نازک تفاصیل، یا
پیچیدگیاں یا خفیہ مضمرات، دَقَّاق: پیسنے والا، کچلنے
والا، آٹا بیچنے والا، اکثر یا ہمیشہ دھڑکنے والا، کوئی ساز
بجانے والا، ساعة دقّاقة: گھڑی۔ دَقَّاقة: دستک
دینے والا، دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ اَدَقّ: زیادہ عمدہ،
زیادہ نفیس، زیادہ نازک، زیادہ چھوٹا، زیادہ باریک،
زیادہ صحیح، زیادہ درست، زیادہ سخت، مِدَقّ: موگری،
سفوف بنانے والا، ہاون دستہ، موسل، پگڈنڈی، فٹ
پاتھ، مِدَقَّة: جمع مَدَاق: موگری، سفوف بنانے
بنانے والا، ہاون دستہ، گھنٹے کا لٹکن، (گھنٹی کا) لٹکن،
تدقیق: صحت، درستی، انتہائی صحت، جچا تلا ہونا،
بتدقیق: بالکل ٹھیک، واقعی، درستی سے، صحت کے
ساتھ، نکتہ سنجی سے، موشگافی سے، مُدَقِّق: کھرا سچا
(عالم)، پرلے درجے کا محقق یا مفتش (تحقیق کرنے
والا، تفتیش کرنے والا) بے رحم، جزئیات کا خیال
رکھنے والا، سخت محتاط، بہت زیادہ غور و خوض سے کام لینے
والا محنتی، جفاکش، مُدَقَّق: ٹھیک ٹھیک (معلومات)
درست یا قطعی (مانی، جانی ہوئی یا معلوم باتیں)

دقر: ۱۔ دَقِرَ-دَقَراً: کھانے سے بھر جانا۔ ـــ النباتُ:
سبزہ کا بکثرت ہونا، ـــ المکانُ: کسی جگہ کا سرسبز و
شاداب ہونا، الدَّقَر و الدَّقِرة و الدَّقِيرة و الدَّقَرَى:
خوشنما منظر والا، ہرا بھرا باغ، ارض دَقْرَاء: سرسبز و
شاداب اور تر زمین۔

۲۔ دَقَّرَ الباب: دروازہ بند کرنا مگر کنڈی نہ لگانا جس سے
دروازہ (چابی کے بغیر) کھل جائے (عام زبان کا
لفظ)

۳۔ الدُّقْران: واحد دُقْرانة: لکڑی جس کو نصب کر کے
انگوروں کی بیل چڑھائی جائے۔ الدَّوْقَرة: پہاڑوں
کے درمیان بنجر زمین۔ الدِّقْرَاوة: جمع دقاریر:
چغلی (کہا جاتا ہے: رجلٌ دِقْراوة: چغل خور آدمی)
بری عادت، جھگڑا، (کہا جاتا ہے: جاءه بالدقارير:
اس نے قبیح جھوٹی باتیں کہیں۔)

○ داقِرة: جمع دَواقِر: مٹی کا برتن، غیر مراعات یافتہ
طلبہ کے لئے وظیفہ (ٹیوشن میں)

دقس: دَقَسَ-دَقْساً و دُقُوساً فی البلاد: ملک میں
گھس جانا، الوتدُ فی الارض: میخ کا زمین میں گڑ
جانا، ـ البئرَ: کنویں کو بھرنا۔

دقش: الدَّقْشة (ح): گرگٹ سے چھوٹا چتکبرا جانور۔

○ دُقشوم: ٹوٹے ہوئے اینٹ پتھر، ملبہ، روڑے کنکر،
اینٹ کے ٹکڑے، روڑی، بجری، پتھری۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دقع: دَقِعَ ـَدَقَعًا: تھوڑے سے گذارے پر راضی ہونا، فقر و ذلت سے خاک نشین ہونا، بدحال ہونا، اَدْقَعَ هُ: کو مفلس بنانا، ذلیل کرنا، ــــ به و الیه فی الشتم ونحوه: کو گالی دینے وغیرہ میں زیادتی سے کام لینا، ــــ الرجلُ: مٹی میں ملا ہوا ہونا۔ الدَّقَعُ: حاجت طلب کرنے میں جھکنا اور اس میں لالچ کرنا، الـداقع (فا): غمگین، تھوڑی روزی کا خواہاں۔ ــــ الادقع: مٹی خاک۔ جـوعٌ اَدْقَع: سخت بھوک، الـمُدْقِع: مٹی سے لگا ہوا، ذلیل، دبلا، بھاگنے والا۔ جـوعٌ مُدْقِع: سخت بھوک۔ الدَّقاعَ و الدُّقاع و الدِّقْعَم: (میم کی زیادتی سے) مٹی، خاک۔ الـمِـدْقـاع جمع مَـدَاقِيع: کمی پر راضی ہونے والا، حریص، لالچی۔ الدَّقْعاء: مٹی، خاک، بنجر زمین۔ الدَّقْعَى: کہا جاتا ہے۔ رأیتُ القوم صَقْعَی دَقْعَی: میں نے لوگوں کو زمین سے چمٹے ہوئے دیکھا۔ الـدَّيْـقـوع: سخت بھوک، الدَّوْقَعَة: مفلسی، غربت، ذلت۔

◯ دَقِعَ ـَدَقَـعًا: اپنی خودی کا جنازہ نکالنا، جھکنا، عاجزی کرنا، لجاجت کرنا، سخت غم زدہ ہونا، سخت بری حالت میں ہونا، مصیبت زدہ ہونا، غریب مسکین ہونا، عاجز و منکسر المزاج ہونا، گرا ہوا ہونا، غربت کی زندگی بسر کرنا، اَدْقَعَ: بمعنی دَقِعَ نیز ــهُ: غربت کا کسی کو سخت بری حالت میں لانا۔ اِدقاع: عام غربت۔ مُدْقِع: سخت بری حالت میں، مصیبت زدہ، ذلیل کرنے والی غربت۔

دقل: دَقَلَ ـُدَقْلاً هُ: کو روکنا، محروم کرنا، کے ناک یا منہ پر مارنا، ــ دُقُولاً: غائب ہونا، ــفيه: میں داخل ہونا۔ اَدْقَلَ الرجلُ: چھوٹے اور کمزور بچے والا ہونا، ــت الشاةُ: بکری کا دبلی و کمزور ہونا، صفت: مُـدْقِل ــ النخلُ: کھجور کے درخت کا خراب و ردی پھل لانا، الـدَّقَـل: ردی اور ادنی قسم کی کھجور، بادبان کا ڈنڈا۔ کہا جاتا ہے۔ اراك اطولَ من الدَّقَل وانت تنثر كلامك نثر الدَّقَل: میں دیکھتا ہوں کہ تم بادبانی ڈنڈے سے بھی زیادہ دراز ہو اور گفتگو بھی ردی و ناکارہ کرتے ہو۔

◯ دَقَل: (جہاز کا) مستول، بڑا مستول، ــ: (اسم جنس واحد) دَقَلَة: اچھی قسم کی کھجوروں کی قسم۔

دقم: ا۔ دَقَـمَ ـَدَقْـمًـاهُ: کے سینہ پر مار کر دھکا دینا، کے دانت توڑنا، دَقِمَ ـَدَقَمًا: کے سامنے کے دانتوں کا گرنا صفت: دَقِم و اَدْقَـم۔ اَدْقَمَ فاهُ: کے اگلے دانتوں کو توڑنا۔ الدَّقَمَة: منہ کا اگلا حصہ۔

۲۔ دَقَمَ ـَدَقْمًا الريحُ عليه: پر ہوا کا آنا۔

۳۔ الدِّقْـم: قرض وغیرہ کا سخت غم۔

دقن: دَقَنَ ـُدَقْـنًـا هُ: کو منع کرنا، محروم کرنا، ــ في لَحْيِ الرجل: کی ٹھوڑی پر مکا رنا۔

دكّ: ا۔ دَكَّ ـُدَكًّا الحائطَ: دیوار کو گرا کر زمین کے برابر کرنا۔ ــ الارضَ: زمین کی اونچ نیچ نکال کر اس کو ہموار کرنا۔ ــ الترابَ: مٹی کو کوٹ کر برابر کرنا۔ ــ البئرَ: مٹی ڈال کر کنویں کو پاٹ دینا۔ ــــ الترابَ علی المیت: میت پر مٹی ڈالنا، اِنْدَكَّ: ہموار ہونا، ــــ الرملُ: ریت کا تہ بہتہ ہونا۔ ــ السَنامُ: کوہان کا پیٹھ کے برابر ہونا۔ الدُّكّ: جمع دِكَـكَة و الدَّكّاء: جمع دَكَاوات: پست پہاڑ، نرم مٹی کا ٹیلہ۔ الدَّكّ (مص) جمع دُكُـوك: ہموار زمین، ہموار جگہ۔ الـدَّكَّة: جمع دِكـاك: ہموار ریتلا میدان۔ بیٹھنے یا کرسی رکھنے کیلئے ایک چبوترہ۔ الـدُّكّان: جمع دَكـاكِيـن: (فارسی لفظ) چبوترہ، دکان، الأَدَكّ: (جس کا اسم الـدَّكَـك ہے جمع دُكّ و دُكُك مؤنث دَكّـاء (ح): چوڑی پیٹھ والا پست قد گھوڑا۔ یومٌ دَكِيك: پورا دن (اسی طرح مہینہ اور سال کو بھی دَكِيك کہا جاتا ہے)۔ المِدَكّ: ہموار کرنے کا آلہ، مضبوط قوی ہیکل آدمی۔ اَمَةٌ مِدَكَّة: کام کرنے میں مضبوط چھوکری۔ الدَّكّاك: بہت کوٹنے پیسنے والا، بہت روندنے والا۔

۲۔ دَكَّ ـُدَكًّا البارودةَ: رائفل یا بندوق لوڈ کرنا (عام لوگوں کی زبان میں) دَكَّكَ الشيءَ بالشيءِ: ایک چیز کو دوسری سے ملانا، مخلوط کرنا، دَكَّكَ السـراويلَ في استعمال العامة: (عوامی استعمال میں) پتلون میں پیٹی ڈالنا، پاجامہ میں ازار بند ڈالنا۔ تَدَاكَّ عليه القومُ: کے پاس لوگوں کا بھیڑ کرنا، ہجوم کرنا، الدِّكَّة: ازار بند، صحیح لفظ التِّكَّة ہے۔ الـمِـدَكّ: ازار بند ڈالنے کی سلائی۔

۳۔ دَكَّ ـُدَكًّا هُ: کو دفع کرنا، دھتکار دینا، ــــ الدابّةَ في السيـر: جانور کو چلا کر تھکانا، کہا جاتا ہے۔ دُكّت الحمّى الرجلَ: بخار نے آدمی کو کمزور کر دیا۔ دُكَّ: بیمار ہونا۔

۴۔ دَكْـدَكَ الحفرةَ: گڑھے کو مٹی سے بھرنا۔ تَدَكْدَكَت الجبالُ: پہاڑوں کا گر کر ہموار ہو جانا، الدَّكْدَك و الـدِّكْـدِك: جمع دَكـادِك و الـدَكـادَك جمع دَكادِيك: سخت زمین۔

◯ دَكَّ ـُدَكًّا هُ: زمین یا سڑک کو چپٹا، یا سپاٹ کرنا، ہموار کرنا، برابر کرنا، یکساں کرنا، زور سے مارنا، (سڑک کے) پتھر کوٹنا، ــــ هُ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا، منہدم کرنا، ویران کرنا، ــ: دبانا، بوجھ تلے پیس ڈالنا، سپاٹ کرنا، دَكَّكَ هُ: کو ملانا، خلط ملط کرنا، اِنْدَكَّ: کچلا جانا۔

ہموار ہونا۔ دَكّ جمع دُكُـوك: ہموار زمین، تباہی، بربادی، انہدام۔ دَكَّة جمع دَكّات: روڑے، توڑے ہوئے پتھر، کنکر، دِكَّة: جمع دِكَك: بنچ، دُكّان: جمع دَكـاكِين: بنچ، سٹور، دکان، دُكـانْجی: سٹور کیپر، دکاندار، پرچون فروش، خردہ فروش، مِدَكّ: جمع مِدَكّات: لوہے کی ڈنڈی، موگری، دھرمٹ، کٹائی کرنے والا، بھرائی کرنے والا۔

دَكَّكَ هُ: پاجامے میں ازار بند ڈالنا، دِكَّة: بمعنی تِـكَّة: ازار بند، ناڑا۔

دكت: الدِكْتاتور: ڈکٹیٹر (لاطینی لفظ)

الـدَّكْتِيلُـوغـرافيا: ٹائپ رائٹر کے ذریعے لکھنے کا فن (یونانی لفظ)

◯ دِكْتَـاتُورِيَة: آمریت۔ دِكْتَـاتُورِيّ: آمرانہ، دُكْتُور: جمع دَكاتِرة: ڈاکٹر، فاضل۔ دكتور في الحقوق: ایل ایل ڈی۔ دكتور في الطب: ایم ڈی۔ دُكْتُوراة: سند فضیلت، ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی کی ڈگری، ڈاکٹر کا خطاب، الـدكتوراة الفخرية: اعزازی ڈاکٹریٹ۔

◯ دِكْرِيتُو: جمع دكريتات: فرمان، حکم فیصلہ، ڈگری۔

دكس: دَكَسَ ـُدَكْسًا الشيءَ: کو بھرنا، ــ الشيءُ: تہ بتہ ہونا، ڈھیر لگنا، اَدْكَسَ المكانُ: کسی جگہ کا سبزی اگانا۔ الـدَّاكِس (فا): چھینک وغیرہ جس سے شگون لیا جاتا ہے۔ ــ من الظباء: پیچھے سے آنے والا ہرن۔ الدُّكاس: اونگھ، الـدِّكِيسَة من الناس: لوگوں کی جماعت، گروہ، الـدَّوْكَـس (ح): شیر، چوپایوں اور بکریوں کا بڑا ریوڑ۔

دكل: ا۔ دَكَلَ ـُدَكْلاً الطينَ: لپائی کے لئے ہاتھ سے گارا جمع کرنا۔ ــ الشيءَ: کو روندنا۔ دَكَّلَ الدابّةَ: جانور کو مٹی میں لوٹانا، الـدَّكَلَة: پتلا گارا، الـدَّكِيل: روندا ہوا۔

۲۔ تَدَكَّلَ: مغرور ہونا، خود کو بڑا جاننا، ــــ عليه: پر ناز کرنا، سے متکبرانہ سلوک کرنا، ــــ عنه: دیر لگانا، الدَّكَلَة: خود کو بڑا جاننے والے لوگ، طاقت کے بل بوتے پہ سلطان سے متاثر نہ ہونے والے۔

۳۔ الأَدْكَل: سیاہی مائل رنگ والا،

دكم: ا۔ دَكَمَ ـُدَكْمًا الشيءَ: چیز کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ پر کوٹنا، ــــ فاه او انفهُ: کا منہ یا ناک توڑ دینا، ــــ هُ في صدره: کو اس کے سینہ پر مار کر ہٹانا، دَكَمَهُ في رأسه: کے سر میں سینگ مارنا، ــــهُ في الشيء: کو چیز میں داخل کرنا۔ تَدَاكَمَ القومُ: ایک دوسرے کو ہٹانا، دھکیلنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲- الدُکمَة: سیاہی مائل رنگ۔

دکن ۱- دَکَنَ-دَکْنًا المتاعَ: سامان کو ترتیب دینا، اوپر نیچے چننا، دکَّنَ المتاعَ: سامان کو ترتیب دینا، اوپر نیچے چننا، ـــ الدُکّانَ: دکان لگانا، جمانا، الدُکّان جمع دَکَاکِین (فارسی لفظ) بنچ، چبوترہ، دکان، الدُکّانی: دکان والا۔

۲- دکِنَ دکنًا: سیاہی مائل ہونا، صفت: اَدْکَن مونث دکْناء، جمع دُکْن ـــ الثوبُ: کپڑے کا میلا اور مٹیالا ہونا، الدُکْنَة: سیاہی مائل رنگ۔

اَدْکَن: مونث دکناء، جمع دُکْن: سیاہی مائل، سانولا (رنگ) داکِن: سانولا، سانولے رنگ کا، اخضر داکن: سیاہی مائل سبز، اَصفر داکن: زردی مائل پیلا، سیاہ زرد رنگ کا کیچڑ رنگ کا۔

دل ۱- دَلَّ-دَلالَةً و دُلولَةً و دِلّلَی دِلّیلَی إلی الشیء و علیہ: کی تک راہنمائی کرنا، کو کا راستہ دکھانا، اَدَلَّ بالطریق: راستہ پہچاننا۔ اِستَدَلَّ علیہ: کا نشان دریافت کرنا، پتہ دریافت کرنا، ـــ بکذا علی الأمر: سے کسی امر یا رائے پر پہنچنا سے کوئی بات سمجھنا، یقین کرنا، الدَلّ: حالت سکون واطمینان، اچھی خصلت۔ الدلّة: نازونخرہ۔احسان۔ الدَلال: وقار، الدَلِیل: جمع اَدِلّة و اَدِلّاء و الدلالة: جمع دَلائل: جس سے رشد و ہدایت ملے، دلیل و حجت، رہنما، مرشد، گائڈ بک، سفر کے مرحلوں اور منزلوں پر مشتمل کاغذ، الدِلالَة: راہبری کی اجرت۔ الدُلّی و الدَلِیْلَة: کھلی سڑک واضح راستہ۔

۲- دَلَّ-دَلًّا و دَلالًا و دَلَّ-دَلَلًا: نازونخرہ کرنا، ـــ ت المرأۃ علی زوجھا: عورت کا اپنے شوہر پر بناوٹی جرأت دکھانا اور جھوٹی مخالفت کرنا۔ اَدَلَّ اِدْلَالًا علیہ: کے ساتھ بیجا بے تکلفی سے پیش آنا، کی محبت پر بہت اعتبار کرلینا۔اسی سے یہ قول ہے۔ دَلَّ فَأَمَلَّ: اس نے بیجا بے تکلفی کی یا محبت پر بہت اعتبار کیا؛ ر تکلیف دہ ہوا نیز کہا جاتا ہے۔ ھو یُدِلُّ بہ: وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ تَدَلَّلَ علیہ: سے گستاخی کرنا۔ ـت المرأۃُ علی زوجھا: عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ نازونخرہ کرنا۔ اِنْدَلَّ: راستہ پانا، المُدِلّ (فا): اپنے اوپر اپنے سامان پر بھروسہ رکھنے والا، ـ بالشجاعة: دلیر، جری، الدَالَّة الدال کا مؤنث: نازونخرہ، جرأت۔ کہا جاتا ہے: لہ علیہ دالة: اس کو اس پر ناز یا جرأت ہے۔(وقار کیوجہ سے) الـدَلال (مص): نازونخرہ الدَالُّو الاء: ناز کرنا۔

۳- دَلَّ-دَلًّا و دَلالًا و دَلَّ-دَلَلًا الرجلُ: فخر وغرور کرنا، اپنی بخشش پر احسان جتانا۔ الـدَلَّة: احسان، الاَدَلّ: احسان جتانے والا۔

۴- اَدَلَّ اِدْلالًا علی اقرانہ: اپنے ساتھیوں کو اوپر سے دبالینا، ـــ البازی علی صیدہ: باز کا اپنے شکار پر جھپٹا مارنا، اِنْدَلَّ الماءُ: پانی کا گرنا۔

۵- دَلَّلَ الدَلّالُ علی السلعة: دلال کا سامان کی بولی لگانا، سامان کو نیلام کرنا۔ الـدَلّال: نیلام کرنے والا، دلالی کرنے والا، الدِلالة: دلال کا پیشہ، دلال کا کمیشن۔

۶- دَلْدَلَ دَلْدَلَةً اعضاءہ او راسَہُ: چلتے ہوئے اعضائے بدن یا سر کو ہلانا۔ تَـدَلْـدَلَ فی مشیہ: چلتے ہوئے ہلنا، لڑکھڑانا، ـ الشیءُ: لٹکتے ہوئے حرکت کرنا، ہلنا۔ الدُلْدُل: بڑا کام، ـو الدُلْدُول (ح): سیہ، خارپشت، الـدَلْدال: اضطراب، قومْ دَلْدَال: لغزش بگام چلنے والے لوگ۔

○ دَلَّ-دَلالَةً علی: کو کوئی چیز دکھانا، پر کچھ واضح کرنا، کی کی طرف توجہ دلانا، ـــہ علی/الی: کی کی طرف رہنمائی کرنا، کو کی طرف لیجانا، کو کا راستہ دکھانا، کو دکھانا، کا اشارہ کرنا، کو دیکھنا، کو انگلی سے ـــ علی: بتانا، اشارہ کرنا، کا ثبوت دینا، کو ظاہر کرنا، بتانا، پر دلالت کرنا، کی طرف دلالت کرنا، کا مفہوم ہونا، کا ثبوت ہونا، کی تجویز پیش کرنا، کا خیال دلانا، ایما ظاہر کرنا، کی علامت ہونا، کی دلیل ہونا، کا اثر رکھنا، کا ثبوت فراہم کرنا، کی گواہی مہیا کرنا، کو ثابت کرنا، ـ ـ دلالا علی: سے عشوہ گری کرنا، نازنخرے کرنا، ناز و ادا کرنا، اٹھلانا، دَلَّلَ علی: کو ثابت کرنا، کا ثبوت فراہم کرنا، ـــ علی ب: کی کے ساتھ تصدیق کرنا، توثیق کرنا، ـــ علی: کچھ بیچنا، نیلام میں پیش کرنا، کو نیلام کرنا، کی نیلامی بولنا، ـــہ: کو لاڈ سے بگاڑنا، کی حد سے زیادہ ناز برداری کرنا، کو بگاڑنا، کی عادتیں خراب کرنا، (بچہ) پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، کو چومنا، کو بہت لاڈ پیار کرنا، اَدَلَّ علی: سے مناسب احترام کے بغیر پیش آنا، سے بیجا بے تکلفی سے پیش آنا۔ ـ ب: پر فخر کرنا، مغرور و متکبر ہونا، تَـدَلَّلَ علی: سے عشوہ گری کرنا، نازنخرے کرنا، ناز و ادا کرنا، اٹھلانا، سے بیجا بے تکلفی سے پیش آنا، کو لاڈ سے بگاڑنا، کی حد سے زیادہ ناز برداری کرنا۔ ـ: معلومات حاصل کرنا، شرمیلی ہونا، بجلی ہونا، حیادار ہونا، ظاہر داری یا جزباتی طور پر پیش آنا، اِسْتَدَلَّ علی: کسی چیز کو دکھانے کے لئے کہنا، کے بارے میں معلومات کی درخواست کرنا، سے مطلع ہونا، آگاہ ہونا، ـ علی: کے بارے میں اطلاع پانا، سے رہنمائی حاصل کرنا، ـــ ب: کے مطابق کرنا یا طرز عمل اختیار کرنا، ـ علی من/ب: سے نتیجہ اخذ کرنا کر......ـ ـــ من/ب علی: سے کے بارے میں نتائج اخذ کرنا۔ کے مطابق کرنا یا طرز عمل اختیار کرنا، ـ علی من/ب: کے بارے میں سے اندازہ لگانا، دَلّ: مناسب، باوقار کردار، عشوہ گری، ناز۔ دَلّة: جمع دِلال: کافی بنانے کے لئے مڑی ہوئی ٹونٹی اور دستے کا برتن، عشوہ گری، نخرے بازی، لاڈ میں عادتیں بگاڑنا، ناز برداری، بگاڑ۔

دَلِیل: جمع اَدِلّة و دلائل و اَدِلّاء علی: کی دلیل، نشانی، علامت، ثبوت، گواہی، ـــ: نشانی، نشان، علامت، علامتِ مرض، راہنما، رہبر، سیاحوں کا رہبر، (ہوائی یا بحری جہاز کا) پائلٹ، گائیڈ بک، (سیاحوں کی معلومات کے لئے طبع شدہ کتاب، رہنما رسالہ، رہنما یا رہبر کتاب، ڈائریکٹری، ٹیلیفون ڈائریکٹری، ریلوے رہنما کتاب، ٹائم ٹیبل، اقام الدلیل علی: کا ثبوت فراہم کرنا، کو ثابت کرنا، دکھانا، دلیل ظرفی: واقعاتی شہادت، قرائن پر مبنی شہادت، دلیل قاطع: پختہ ثبوت، فیصلہ کن شہادت، دوٹوک گواہی، قطعی شہادت، دلّال: نیلام کرنے والا، دلال، قرق شدہ مال بیچنے والا، متفرق کام کرنے والا، تاجر، دوکاندار، گماشہ، کارندہ کارکن، مقیم، آڑھتی، پھیری والا، خوانچے والا- دَلالَة: جمع دَلالات: اشارہ کرنا، رہنمائی، نشانی، علامت، معنی، مفہوم، ـــ علی: کی دلیل، کا نشان، کی علامت، دِلالَة: نیلامی، دلالی، دلال کا کمیشن، تاجر، مختلف کام کرنے والے یا کارندہ کا پیشہ، دَلّالَة: عورت دلال، اَدَلّ علی: کو زیادہ معقول طور پر ثابت کرنے والا، پر زیادہ دلالت کرنے والا، زیادہ معنی خیز، زیادہ محرک خیال، اَدَلُّ دلیل علی: کا بہترین ثبوت، کی یقینی ترین شہادت، تدلیل: توجیہ، دلیل، بحث مباحثہ، اثبات، دلالت، ثبوت، ـــ علی: کو ثابت کرنا، کا اثبات، کیلئے ثبوت یا شہادت کی فراہمی، ـــ: تصدیق، توثیق، تائید، ثبوت، ثبوت اصلیت، عشوہ گری، لاڈ میں عادتیں بگاڑنا، خراب کرنا، ناز برداری کرنا، چمکارنا، پچکارنا، محبت سے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا، پیار کرنا، لاڈ کرنا، پیار سے ہاتھ پھیرنا، چومنا، سینے سے لگانا، کسی قسم کی پسندیدہ شکل- اسمُ التدلیل: دل پسند نام، چہیتا نام- تَـدَلُّـل: عشوہ گری، نخرے بازی، لاڈ سے بگاڑنا، ناز برداری کرنا، اسـتدلال: مباحثہ، بحث، توجیہ، دلیل، اثبات، دلالت، ثبوت، دلیل، مثالوں کے ذریعے تعلیم، نتیجہ، استدلال، استخراج، ـ علی: کا ثبوت، کی شہادت، دالّة: بے تکلف دوستی،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بے تکلفی بے جا بے تکلفی، جی داری، بہادری، دلیری،
مَدْلُول: ثابت کیا ہوا (جمع مدلولات) معنی، مفہوم،
مَدْلُولَاتُ الْكَلِمَات: لغوی معنے، مُدَلَّل: بگڑا ہوا
بچہ، بچہ جس کی لاڈ میں عادتیں بگڑ گئی ہوں۔ مُدِلّ:
گستاخ، شوخ، متکبر، مُدِلٌّ بنفسه: مغرور، متکبر، خود
پسند، اپنی ذات کو اہم سمجھنے والا۔

دلب: ۱- الدُّلْب (ن): درخت چنار- الدُّلْبَة: سیاہی-
الدَّالِب: دہکتا ہوا انگارا، دہکتی ہوئی چنگاری، الدُّولَاب
والدَّوْلَاب: جمع دَوَالِيب: محور پر گھومنے والی
ہر چیز، رہٹ (فارسی لفظ) المُدْلِبَة: بکثرت چنار
کے درختوں والی زمین۔
۲- الدلبوث او سیف الغراب (ن): ایک پھولدار پودا۔
○ دُلْب: مصر اور شام کا انجیر (درخت)
○ دلتا: نشیبی مصر، نیل کا ڈیلٹا (تکونی زمین جو دریائے
نیل کے دہانے پر بن گئی ہے)

دلث: دَلَثَ - دَلِيثًا: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا-
تَدَلَّثَ اليه: پر کود پڑنا، میں گھس پڑنا- اِنْدَلَثَ
الرجلُ: خودسر ہونا- اِدَّلَثَ الشيءَ: کوڑھا نکلنا-
الدِّلَاث: جمع دُلُث و دُلْث: تیز رو- رجلٌ
دِلَاث: تیز رو آدمی- ناقةٌ دِلَاثٌ: تیز رو اونٹنی-

دلج: ۱- دَلَجَ - دُلُوجًا: کنویں سے پانی لے کر حوض میں
ڈالنا صفت- دَالِجٌ جمع دُلَّج- المِدْلَجَة: ڈول،
دودھ لیجانے کا بڑا برتن-
۲- اَدْلَجَ اِدلاجًا و اِدَّلَجَ اِدِّلاجًا القومُ: تمام رات یا
رات کے آخری حصہ میں سفر کرنا- اسم الدُّلْجَة
والدَّلْجَة- الدَّلَج والدَّلَجان والدَّلَجَة: رات کا
آخری پہر یا آخری گھڑی- المِدْلاج: آخری رات
میں چلنے کی عادی-
۳- الدَّوْلَج: سرنگ- والمَدْلَجَة: وحشی جانوروں کا
بھٹ-
○ اَدْلَج: آغاز شب پر روانہ ہونا-

دلح: دَلَحَ - دُلُوحًا: بوجھ کے باعث آہستہ رفتاری سے
چلنا، سستی سے چلنا- دلحًا الشيءَ: کو کنویں میں
ڈالنا یا نکالنے کے لئے کھینچنا- (عوامی زبان میں)
طربوش دَلَح: لمبی ٹوپی، تَدَالَحَ الرجلان
الشيءَ بينهما: کو دو شخصوں کا لکڑی پر اٹھانا، الدَّالِح
جمع دُلَّح و دَوَالِح والدَّلُوح جمع دُلُح: پانی سے
بہت بھرا ہوا بادل- فرسٌ دُلَّحٌ: سوار کو نہ ستانے والا
گھوڑا، بہت پسینہ والا گھوڑا-
○ دَلُوح: جمع دُلُح: آبی قطرات سے لدا ہوا بادل-
○ دُلْدَل: لٹکنا، جھومنا، جھولنا، تَدَلْدَلَ: لٹکنا، جھولنا،
جھومنا، دُلْدُل و دُلْدُل: سیہ، خار پشت-

دلخ: دَلِخَ - دَلَخًا: موٹا ہونا، الاناءُ: برتن کا بھر کر بہہ
پڑنا، چھلکنا، الدَّالِخ: موٹا فربہ کہا جاتا ہے- بعیرٌ
دالخ وابلٌ دُلَّخ و دَوَالِخ: موٹا یا فربہ اونٹ،
موٹے یا فربہ اونٹ، الدَّلُوخ: جمع دُلُخ: موٹا، فربہ

دلس: ۱- دَلَّسَ البائعُ: بیچنے والے کا خریدار سے فروخت
کی جانے والی چیز کا عیب چھپانا، ___ المُحَدِّث:
محدث کا اپنے شیخ کا نام نہ لینا بلکہ اوپر کے راوی کا نام
ایسے نہج سے لینا کہ گویا اس کو اس سے سماع حاصل
ہے- دَالَسَ مُدَالَسَةً ہ: کو دھوکا دینا، پر ظلم کرنا- کہا
جاتا ہے- هو لا يُدَالِس و لا يُوَالِس: وہ نہ ظلم کرتا
ہے نہ خیانت، تَدَلَّسَ الرجلُ: چھپنا، اِنْدَلَسَ
الشيءُ: پوشیدہ ہونا- الدَّلَس: دھوکا فریب،
الدَّلَس والدُّلْسَة: تاریکی، اندھیرا-
۲- اَدْلَسَ المكانُ: موسم گرما کے آخر میں یا چر لینے کے
بعد کسی جگہ کا سرسبز ہونا- تَدَلَّسَت الدابَّةُ: چراگاہ
میں جانور کا تھوڑی سی گھاس کو پورا چر جانا ___ الطعامَ:
کھانے کو تھوڑا تھوڑا کھانا- الادلاس
مفرد الدَّلَس (ن): موسم گرما کے آخر یا چرے جانے
کے بعد ہرا ہونے والا سبزہ یا پودے-
○ دَلَّسَ: دھوکا دینا، ٹھگنا، خرد برد کرنا، فریب دے کر لوٹنا،
___ ہ: میں جعلسازی کرنا، کو جعلی بنانا، گھڑنا، دَالَسَ ہ:
کو دھوکا دینا، کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کو ٹھگنا،
تَدْلِيس: دھوکا، فریب، دغا، مکر، چھل، دغابازی، دھوکا
بازی، ٹھگی، خرد برد، فریب دیکر لوٹنا، تَدْلِيسِيّ: دھوکے
اور فریب کا- مُدَلَّس: گھڑا ہوا، جعلی، نقلی، مصنوعی،
نقود مُدَلَّسَة: جعلی سکے، نوٹ یا نقدی- مفاتیح
مُدَلَّسَة: نقلی چابیاں-

دلص: دَلَصَ - دَلِيصًا: چکنا، نرم ہونا، صفت، دَلِص: جمع
دِلَاص و دَلِيص جمع دُلُص دَلِص -
دِلَاصَة: سامنے ہونا صفت، اَدْلَص: مؤنث دَلْصَاء
دَلَّصَ الشيءَ: کو نرم کرنا- کہا جاتا ہے- دَلَّصَ
السيلُ الحجرَ: سیلاب نے پتھر کو چمکدار بنا دیا- ___
الدِّرعَ: زرہ کو نرم و ملائم کرنا، ___ الجبينَ: پیشانی
کے بال نوچنا- اِنْدَلَصَ الشيءُ من يده: چیز کا
ہاتھ سے چھوٹ کر گر جانا، ___ الشيءُ من الشيء:
چیز کا چیز سے نکلنا- الدَّلِص والدِّلَصَة: ہموار زمین،
الدِّلاص: نرم، چمکدار- الدَّلَّاص: نرم، چمکدار،
کہا جاتا ہے- دِرْعٌ دِلَاصٌ: نرم چمکدار زرہ،
الدَّلَّاص: نرم چکنا، نابٌ دَلْصَاء: بڑھاپے کے
باعث گرے ہوئے دانتوں والی اونٹنی-

دلط: دَلَطَ - دَلْطًا في سيره: جلدی گزرنا- ہ: کے سینے
پر مار کر دھکیلنا، ہٹانا، دَالَطَ ہ: کی مدافعت کرنا،
مقاومت کرنا، اِنْدَلَطَ الماءُ: پانی تیزی سے جاری
ہونا-

دلع: ۱- دَلَعَ - دَلْعًا لسانَهُ: منہ سے زبان نکالنا، ___
دَلْعًا و دُلُوعًا و اِدَّلَعَ لسانُه: منہ سے زبان باہر
نکلنا- اَدْلَعَ لسانَهُ: منہ سے زبان نکالنا- اِنْدَلَعَ
لسانُهُ: منہ سے زبان باہر نکل آنا- البطنُ: پیٹ کا
بڑھ کر ڈھیلا ہونا- السيفُ: تلوار کا میان سے نکلنا-
الدَّلُوع من النوق: رفتار میں اونٹوں سے آگے نکل
جانے والی اونٹنی- الدُّلَّاع و الدُّولَعَة (ح):
گھونگھا- المُدَلَّع: نازونعمت میں پلا ہوا- اسم الدَّلَاعَة-
۲- الدَّلِيع و الدَّلُوع: جمع دلائع: کشادہ راستہ، نرم
راستہ-
۳- الدَّلَعْس و الدِّلْعِس و الدِّلَعْوَس و الدِّلْعَاس
و الدُّلَاعِس من الجمال: سدھا ہوا اونٹ-
○ دَلَعَ - دَلْعًا لسانَهُ: اپنی زبان باہر نکالنا، دَلَّعَ ہ: بچہ کو
بگاڑنا، لاڈ سے بگاڑنا، کو چومنا، پیار سے ہاتھ پھیرنا،
بہت لاڈ پیار کرنا- شيءٌ يُدَلِّعُ النفسَ: تے آور
چیز، نفرت انگیز چیز- اِنْدَلَعَ: زبان کا باہر نکلنا، (شعلہ
کا) دفعتاً جل اٹھنا، ہلکے سے چھونا، تیر کی طرح نکلنا،
(آگ کا) یکا یک لگ جانا، شروع ہونا، یا پھیلنا، (بچہ
کا) بگڑ جانا، لاڈ سے بگڑنا- اسم الدَّلَع: پسندیدہ چہیتا
نام، دلاّع: اسم جنس واحد دلاّعة: تربوز-

دلغ: الدِّلغان: لیس دار چکنے والی مٹی (لغت عامہ)

دلف: دَلَفَ - دَلْفًا و دَلَفًا و دُلُوفًا و دَلِيفًا و دَلَفَانًا:
بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چھوٹے چھوٹے قدموں
سے چلنا- ___ ت الناقة بحملها: اونٹنی کا بوجھ
لے کر اٹھنا- الجيشُ: لشکر کا آگے بڑھنا صفت
دالِف جمع دُلَّف و دُلُف اَدْلَفَهُ الكِبَرُ: کو
بڑھاپے کا آہستہ چلانا، تَدَلَّفَ اليه: چل کر کسی کے
نزدیک ہونا- الدَّالِف: نشان کے قریب گر کر اچٹ
جانے والا تیر- الدَّلُوف جمع دُلُف (ح): فربہ
اونٹ (ن) بہت پھل دار کھجور کا درخت-
۲- اَدْلَفَ لهُ القولَ: کے ساتھ سختی سے کلام کرنا-
۳- اِنْدَلَفَ عليه: پر گرنا- الدِّلْف: بہادر الدَّلُوف
جمع دُلُف: تیز اڑان کا گدھ-
۴- الدُّلْفِين (ح): جمع دَلَافِين: ایک قسم کی بڑی مچھلی-
اس کے ہم معنی عربی لفظ الدُّخَس ہے- فربہی
میں اس کی مثال دی جاتی ہے-
○ دَلَفَ - دَلْفًا و دُلُوفًا و دَلَفَانًا: ڈگمگا کر چلنا، چھوٹے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چھوٹے قدموں سے چلنا، ــالی: آہستہ چل کر، مٹر گشت کرتے ہوئے یا ٹہلتے ہوئے کسی کے پاس جانا۔ ــعلی: کی طرف آگے بڑھنا۔ ــالی. قدم بقدم کسی شخص یا چیز تک پہنچنا، تک پہنچنا، تک گھس جانا، کو ٹوہنا، ٹولنا، (ہاتھ کا) ــــ (پانی کا) رسنا، ٹپکنا، قطرہ قطرہ ٹپکنا، قطرہ ہوکر گرنا، دَالِف: جمع دَوَالِف: گولی جو سطح سے ٹکرا کر واپس اچھل آئے۔ دُلفِین: ڈولفن (Dolphin)۔

دلق. دَلَقَ ـ دَلْقًا و اَدْلَقَ السیفَ من غمده: تلوار کو میان سے نکالنا۔ ــ البعیرُ شِقْشِقَتَهُ: اونٹ کا اپنے منہ سے ببلے نکالنا، جھاگ نکالنا۔ ــ علیهم الغارةَ: پر لوٹ ڈالنا، حملہ کرنا، ــــ الباب: دروازہ کو زور سے کھولنا، ــــ دَلْقًا و دُلُوقًا السیفُ: تلوار کا خود بخود نکل آنا۔ ــــ ت الخیلُ: گھوڑوں کا آگے پیچھے نکلنا، صفت دُلُق واحد دَالِق و دَلُوق۔ تَدَلَّقَ السیلُ علیه: پر سیلاب کا ایک دم آ پڑنا۔ اِنْدَلَقَ الشیءُ: اپنی جگہ سے نکل آنا، ــ السیفُ: تلوار کا خود بخود نکل آنا۔ ــ السیلُ علیه: پر سیلاب کا امنڈ آنا۔ ــ ت الخیلُ: گھوڑوں کا بہت تیزی سے نکلنا۔ اِسْتَدْلَقَ السیفَ: تلوار کو میان سے نکالنا۔ الدَلْق (مص): چیز کا نکلنے کی جگہ سے تیزی سے نکلنا۔ الدَلَق (ح): جسم میں بلی کے قریب قریب زرد رنگ کا ایک جانور جس کا پیٹ اور گردن مائل بہ سفیدی ہوتے ہیں۔ (فارسی لفظ) سیفٌ دَالِقٌ و دَلِقٌ و دَلُوقٌ: میان سے بآسانی نکلنے والی تلوار۔ غارةٌ دَلُوقٌ: سخت لوٹ، حملہ۔ ناقةٌ دَلُوقٌ: بوڑھی ٹوٹے ہوئے دانتوں والی اونٹنی۔ جمع دُلُق۔

○ دَلَقَ ـ دَلْقًا ہ: (سیال چیز) کو گرانا، بہانا، اِنْدَلَقَ (سیال چیز) کا گرنا، بہنا۔

دلك ا: دَلَكَ ـ دَلْكًا الشیءَ: کو رگڑنا، ملنا، کھرچنا، ــ وجهَهُ بالطیب: چہرے پر خوشبو لگانا، ــــ ہ الدهرُ: زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا، ــــ الصانِعُ الکلسَ: بنانے والے کا چونے کو ہموار کرنا، (لغت عامیہ) تَدَلَّكَ: نہاتے وقت بدن ملنا، ــ بالطیب: خوشبو لگانا، الدَلَكَ: ڈھیلا پن، کہا جاتا ہے، فی رکبته دَلَكٌ: اس کے زانوں میں ڈھیلا پن ہے۔ الدَلُوك: لگانے کی خوشبو یا ملنے کی دواء الدَلِیك: خاک جسے ہوا اڑاتی پھرے، ــ جمع دُلُك: تجربہ کار۔ المِدْلَكُ و المِدْلَكَة: ملنے کا آلہ۔ البعیرُ المَدْلُوك (مصح): کمزور گھٹنوں والا اونٹ، سفر کا تجربہ کار، لدُوْلِوك جمع دَآلِیك بڑا معاملہ۔

٢۔ دَلَكَ ـ دُلُوكًا ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کیلئے جھکنا۔ صفت دَالِك۔ دَلَك: غروب آفتاب کا وقت۔

٣۔ دَلَكَ ـ دَلْكًا الرجلَ حقَّهُ: کا حق ظلماً چھین لینا۔ ــ غَرِیمَهُ: قرض خواہ کو ٹالنا۔ دَالَكَ مُدَالَكَةً الغریمَ: قرض خواہ کو ٹالنا، المُدَالِك: وہ شخص جو خود کو چھچھوری باتوں سے بلند نہ رکھ سکتا ہو۔

٤۔ الدَلِیك (ن): ایک پودا

○ دَلَكَ ہ: کو رگڑنا، تھپکنا، سہلانا، پر ہاتھ پھیرنا، ملنا، ــــ العجینَ: آٹا گوندھنا، ــ دُلُوكًا: سورج کا غروب ہونا، نیچے جانا، دَلَّكَ ہ/ہ: کو ملنا، رگڑنا، ــہ: کی مالش کرنا، کو طلا لگانا، لیپ کرنا، آٹا گوندھنا۔ ــ ہ: کے ہاتھ پاؤں دبانا، کی چپی کرنا۔ دَلْك: رگڑنا، ملنا، گھاس چرانا، گلہ بانی کرنا، صاف کرنا، چھونا، لمس، دَلُوك: طلا، ضماد، مرہم، تیل، مالش کی دوا یا روغن۔ دُلُوك الشمس: غروب آفتاب۔ تَدْلِیك: ضماد، لیپ، تیل، مالش کی دوا، مالش، مالش کرنا، مُدَلِّكَة: جمع مُدَلِّكَات: مالش کرنے والی۔

دلم ا: دَلِمَ ـ دَلَمًا و اِدْلَامَّ اِدْلِیمَامًا: چمکدار سیاہ ہونا، صفت، اَدْلَم: مؤنث دَلْمَاء اِدْلَامَّ اللیلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ الدُلْم (ح): ہاتھی۔ الدَلَام: سیاہی، سیاہ، کہا جاتا ہے۔ شیءٌ دَلَامٌ: سیاہ چیز۔ الدَلْماء: قمری مہینے کی تیسویں رات۔ الاَدْلَم: لمبا سیاہ (ح) کالا سانپ، ــ من الالوان: کالا رنگ، الدَیْلَم: حوض کے نزدیک چیونٹیوں اور چیچڑیوں کے جمع ہونے کی جگہ، لشکر (ح) بھٹ تیتر، نر تیتر، کردوں کی ایک قوم کا نام، مصیبت۔

٢۔ دَلِمَ ـ دَلَمًا ت الشفةُ: ہونٹ کا ڈھیلا ہو کر لٹک جانا۔ اَدْلَمَ شفتَهُ: ہونٹ کو ڈھیلا کرنا۔

٣۔ الدُلَمِس و الدُلَامِس: سخت تاریکی، مصیبت۔ الدِلْمِس: مصیبت۔

٤۔ تَدَلْمَصَ راسُهُ: کے سر کا گنجا ہونا۔ الدُلَمِص والدُلَامِص: چمکدار۔ راسٌ دُلَمِصٌ: گنجا سر۔

دله ا۔ دَلَهَ ـ دَلْهًا عنه: سے تسلی پانا،

٢۔ دَلِهَ ـ دَلَهًا و دَلْهًا و دُلُوهًا و تَدَلَّهَ: غم وغیرہ سے مسلوب العقل ہونا، حیران ہونا، دَلَّهَهُ: کو حیران کرنا، مدہوش کرنا۔ الدَلْه مص: کہا جاتا ہے۔ ذهب دمُهُ دَلْهًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ الدَالِه و الدَالِهَة: عشق وغیرہ کی وجہ سے کمزور دل، سرگشتہ و دیوانہ، المُدَلَّه: عشق وغیرہ کی وجہ سے کھوئی ہوئی عقل یا دل والا۔

٣۔ دَلَهَثَ الرجلُ: جلد آگے بڑھنا۔ الدَلَهْث والدُلَاهِث والدِلْهاث: دلیر، آگے بڑھنے والا (ح) شیر۔

٤۔ اِدْلَهَمَّ اللیلُ: رات کا سخت تاریک ہونا، ــ الظلامُ: اندھیرا گھپ ہونا، الدَلْهَم: تاریک، سیاہ، (ح) نر بھٹ تیتر، الدَلَهْمَس: بہت تاریک رات۔

٥۔ اِدْلَهَمَّ الرجلُ: سن رسیدہ ہونا، بوڑھا ہونا۔

٦۔ الدَلْهُم: عشق سے کھوئی ہوئی عقل والا۔ (ح): بھیڑیا۔ الدِلْهام والدَلَهْمَس: دلیر، بہادر، (ح) شیر۔

○ دَلَّہَ ہ: عشق کا کسی شخص کو حواس باختہ کر دینا، پاگل کر دینا۔ تَدَلَّہَ: عشق سے پاگل ہو جانا۔ تَدَلَّهَتْ فی حبه: وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوگئی، مُدَلَّہ: محبت میں پاگل۔

○ اِدْلَهَمَّ: تاریک، سیاہ ہونا، گہرا سیاہ ہونا، دَلْهَم: تاریک، گہرا سیاہ، اِدْلِهْمَام: گہرا سیاہ، مُدْلَهِمّ: تاریک، گہرا تاریک۔

دلا ا: دَلَا ـ دَلْوًا الدَلْوَ: ڈول کو کنویں میں ڈالنا، ڈول کو نکالنے کیلئے کھینچنا، ــــ حاجتَهُ: حاجت طلب کرنا، دَلَوْتُ بالدَلْو: میں نے ڈول سے پانی کھینچا۔ کہا جاتا ہے۔ دلوتُ بفلانٍ الیك: میں نے فلاں شخص کو تیرے پاس سفارشی بنایا۔ دَلَاهُ: سے نرمی و مدارات کا سلوک کرنا، دَلَّی الدلوَ: کنویں میں ڈول ڈالنا، ڈول کو نکالنے کے لئے کھینچنا، ــحاجتَهُ: حاجت طلب کرنا، ــہ بالحبل من السطح: اس نے اس کو رسی کے ذریعے چھت سے لٹکایا تو وہ لٹک گیا۔ کہا جاتا ہے۔ دَلَّاہ بغرور: اس نے اس کو دھوکے میں ڈالا، دَالَی ہ: کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، مدارات سے پیش آنا۔ اَدْلَی اِدْلَاءً: کنویں میں ڈول ڈالنا، ــ الیه بمالٍ: کو مال دینا، بعض کے نزدیک اس کی اصل دلا الدلوَ: ہے۔ ــبحجته: دلیل پیش کر کے اس سے حجت کرنا، ــ بقرابته: سے رشتہ داری کا وسیلہ پکڑنا، اُدْلِیَ اِلی فلان: کے پاس اپنا جھگڑا لیجانا، تَدَلَّی الثمر من الشجر: درخت سے پھل کا لٹکنا، ــ من الخیل: گھوڑے سے اترنا۔ الدَلْو: جمع دِلَاء واَدْلٍ و دُلِيّ و دِلِيّ و دَلَىً: ڈول۔ مؤنث۔ کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ (کہا جاتا ہے اَلْقِ دَلْوَكَ فی الدلاءِ: اوروں کی طرح تم بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لو) ایک برج آسمانی کا نام۔ الدَلَاة: جمع دَلًى و دَلَوَات: چھوٹا ڈول الدَالِی: سیاہ انگور۔ الدَالِیَة: جمع دَوَالٍ: زمین جس کو ڈول یا رہٹ سے سینچا جاتا ہو رہٹ، (ن) انگور کی بیل۔

٢۔ اَدْلَوْلَی اِدْلَاءً فیه: کسی کی بدگوئی کرنا، غیبت کرنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۳۔ اِدْلَوْلَی اِدْلِیْلاءً: جلدی کرنا۔
۴۔ الدَلُو: اونٹ کا داغ۔ مصیبت۔
○ دَلّٰی ہ: کو لٹکانا، لٹکنے دینا، کو نیچا کرنا، گرانا۔ اَدْلَی: بمعنی دَلّٰی: نیز اَدْلَی ہ اِلی: پر سرسری نظر ڈالنا، ــ بانظارہ: اپنی نگاہیں نیچی کرنا، ــ ب: کا اظہار کرنا، ــ برأیہ: اپنی رائے کا اظہار کرنا، ــ بتصرع: بیان دینا، ــ بحجۃ: اپنی دلیل پیش کرنا، ــ اِلی ب: کو سے مطلع کرنا، کو کوئی چیز پیش کرنا، ــ بحدیث ل: کو اثر ویو دینا، ــ فی: کو بدنام کرنا، کی بے عزتی کرنا، پر تہمت لگانا، عیب لگانا، کو رسوا کرنا، اَدْلَی دلوَہُ بین الدِلاءِ یا اَدْلَی بدَلْوِہِ فی الدلاء: دوسروں کے ساتھ اپنا حصہ پیش کرنا، اپنی خصوصی مہارت پیش کرنا، جو کر سکتا ہو کرنا، تَدَلّٰی مِن: (سے) لٹکنا، نیچا ہونا یا ہو جانا، اترنا، ڈوبنا۔ تَدَلّٰی للسقوط: گرنے کے لئے تیار ہونا، کے گرنے کا خطرہ پیدا ہونا، دَلْو: چمڑے کا ڈول، ڈولچی، بالٹی، ٹھلیا، (فلک) برج آبی، قوس آبی، کمبھ، گیارہواں برج، برج دلو، دَلّایَۃ: لٹکا ہوا، معلق، آویزان، اِدلاء: (بیان) دینا، بیان، اظہار، پیش کش، دینا، دَالِیۃ: جمع دَوَالٍ: پن پہیہ، رہٹ، جعفری، پھولی ہوئی رگ۔ مُتَدَلٍّ: لٹکا ہوا، معلق، آویزان، لٹکتا ہوا، گرنے کے قریب۔

دلی: دَلِیَ ـ دَلیً: حیران ہونا، ــ لَہٗ: کے سامنے تواضع کرنا، عاجزی کرنا، فروتنی کرنا، تَدَلّٰی بہ: کے قریب ہونا۔

دمّ: ۱۔ دَمَّ ـ دَمًّا الشیءَ و بالصبغ اولقیرِ ونحوهما: کو رنگ یا تارکول لتھیڑنا یا ملنا، ــ الارضَ: زمین کو برابر کرنا، ــ الیربوع جحرَہٗ: جنگلی چوہے کا اپنے سوراخ کو مٹی وغیرہ سے برابر کرنا، بند کرنا۔ دَمَّمَ الشیءَ: چیز کو لتھیڑنا۔ اللَمّ: بمعنی دم، ــ والدِمَم والدِمام: ہر چیز جو طلا کے کام آئے۔ الدِمَّۃ: بکریوں کا باڑہ، مینگنی۔ المِدَمَّۃ: ایک قسم کی دندانہ دار لکڑی جس سے کاشتکار زمین کو ہموار کرتے ہیں۔ المَدْموم: خون کی طرح سرخ، بہت موٹا، چربی دار۔
۲۔ دَمَّ ـ دَمًّا الرجلَ: کو پوری طرح عذاب دینا، کو مارنا، یا کا سر کچلنا۔ ــ القومَ: لوگوں کو نیزہ مار کر ہلاک کرنا۔
۳۔ دَمَّ ـ دَمًّا الرجلُ: جلدی کرنا۔
۴۔ دَمَّ ـ دَمَامَۃً: حقیر اور بد ہیئت ہونا، صفت: دمیم جمع دِمَام۔ مونث دمیم و دمیمۃ جمع دَمَائِم و دِمَام۔ اَدَمَّ الرجلُ: بدزبانی کرنا، کے ہاں بدشکل بیٹا پیدا ہونا۔ الدِمَّۃ (ح): چیونٹی (ح): جوں، پست قد و حقیر آدمی۔
۵۔ الدُمَّۃ: جمع دُمَم: طریقہ، گڑیا۔ الدِمَّۃ (ح): بلی۔ الدیموم والدیمومۃ جمع دیامیم: وسیع بیابان۔ الدَیْمُومۃ: ہیشگی۔
۶۔ دَمْدَمَ دَمْدَمَۃً علیہ: سے غصہ کے ساتھ کلام کرنا۔ ــ اللّٰہ علیہم: اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ہلاک کرنا۔ ــ الشیءَ: کو زمین سے چپکانا۔ الدِمْدِم: خشک گھاس، الدُمادِم من الارض: نرم ٹیلے۔

○ دَمَّ ـ دَمًّا ہ ب: کو سے قلعی کرنا، ملمع کرنا، لیپنا، دھبے ڈالنا، ملنا، لیپ کرنا، رنگنا، استرکاری کرنا، پلستر کرنا، پوتنا، آلودہ کرنا، ہلکا رنگ دینا چاشنی دینا، دَمَّمَ ہ ب: کو سے رگڑنا کی سے مالش کرنا، کو سے طلا کرنا، کو سے لیپنا، پر تیل سے مالش کرنا، کو سے اصطباغ دینا۔ دَمّ: مرہم، لیپ، سکون بخش دوا طلا، ضماد، تیل، مالش کا روغن یا دوا، رنگ، روغن غازہ، نسیج کا قدرتی رنگ، رنگنے کا مسالہ، سرخی، گلگونہ، دِمَام: مرہم، لیپ، طلا، ضماد، تیل مالش کا روغن یا دوا، رنگ، روغن، غازہ، نسیج کا قدرتی رنگ، رنگنے کا مسالہ، سرخی گلگونہ۔ دَمِیم: جمع دِمَام: بدصورت، بدشکل، بدنما، بگڑی صورت والا، دَمِیمُ الخِلقَۃ: مکروہ شکل کا دیکھنے میں بدصورت۔ دَمَامَۃ: بدصورتی، بدشکلی، مکروہ پن، بے ہنگم بڑا جسم، انسانیت سوز عمل۔

○ الدَمَّام: مشرقی سعودی عرب کی ایک بندرگاہ۔

دمث: دَمُثَ ـ دَمَاثَۃً: نرم خو ہونا، دَمِثَ ـ دَمَثًا المکانُ وغیرُہٗ: جگہ وغیرہ کا نرم و ہموار ہونا۔ دَمَّثَ المضجعَ: بستر کو نرم کرنا، ــ المکانَ: جگہ کو نرم کرنا، ــ لہ الحدیثَ: سے بیان کرنا، ذکر کرنا۔ الدَمْث والدَمَث، الدمِث والدَمِیث: جمع دِمَاث و اَدْمَاث: نرم ریتلی جگہ۔ رجلٌ دَمِثُ الاخلاق: نرم خو، خوش اخلاق آدمی۔ ارضٌ دَمْثَاء: نرم زمین۔ الدُمُوثۃ: نرم خوئی، خوش اخلاقی۔ الدَمَائِث: واحد دَمِیثۃ: نرم چیزیں۔

○ دَمُثَ ـ دَمَاثَۃً: شریف ہونا، نرم دل، نرم، شریں یا سلیم الطبع ہونا، دَمَّثَ ہ: کو نرم کرنا، ملائم کرنا، رسیلا کرنا، شیریں کرنا، دَمِث: جمع دِماث: دَمِثُ الاخلاق: شریف، معتدل مزاج۔ دَمَاثَہ: شرافت، نرم دلی، شفقت، نرمی۔

دمج: ۱۔ دَمَجَ ـ دُمُوجاً فی الشیء: میں مضبوطی سے گڑ جانا، ــ الامرُ: کام کا ٹھیک و درست ہونا، ــ دَمَّجَ ہٗ فی الشیء: کو کسی چیز میں داخل کرنا۔ دَامَجَ دِماجاً ہٗ علیہم: کی مخالفت پر اتفاق کرنا۔ اَدْمَجَ الشیءَ فی الثوب: چیز کو کپڑے میں لپیٹنا۔ ــ الحبلَ: رسی کو خوب اچھی طرح بٹنا۔ ــ الکلامَ: کلام کو حسن ترتیب سے آراستہ کرنا۔ تَدَمَّجَ فی ثیابہ: اپنے کپڑوں میں لپٹنا۔ تَدَامَجَ القومُ علیہ: کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنا، اکٹھا ہونا۔ ــ القومُ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اِنْدَمَجَ و اِدَّمَجَ فی الشیء: میں مضبوطی سے گڑ جانا۔ الدَامِج: تاریک۔ لیلٌ دامِجٌ: تاریک رات۔ الدُمَاج والدِمَاج: بہت مضبوط، سیدھا۔ الدُمْجَۃ: طریقہ۔ کہا جاتا ہے۔ علی تلك الدُمْجۃ: اسی طریقہ پر۔ المُدْمَج: تیر کی چھڑ۔ المُدْمَاجَۃ: پگڑی۔ الدامِجَانۃ: جمع دامِجانات: تنگ گردن کی بڑی بوتل جس کے گرد تنکوں کا خول ہو (اٹلی زبان کا لفظ) عوام اسے دَمَلْجَانۃ و دَمَجَانۃ: کہتے ہیں۔
۲۔ اَدْمَجَ الفرسَ: گھوڑے کو دبلا کرنا۔
۳۔ الدَمْج: نظیر۔ الدِمْج: دوست۔

○ دَمَجَ ـ دُمُوجًا فی: میں داخل ہونا، میں جانا یا آنا میں ڈالا جانا، میں متحد ہونا، ضم ہونا، شامل ہونا۔ دَمَّجَ: مختصر نویسی کرنا، اَدْمَجَ ہ: کو مضبوطی سے بٹنا، گوندھنا، ــ ہ فی: کو میں داخل کرنا، ڈالنا، شامل کرنا، ایک کرنا، متحد کرنا، ضم کرنا، کا میں الحاق کرنا، لفظ بڑھانا، کو میں ڈالنا، لا کر رکھنا، اِنْدَمَجَ فی: میں ڈالا جانا، میں یکجا ہونا، متحد ہونا، ختم ہونا، میں شامل ہونا، مدغم ہونا، میں جذب ہونا، مدغم ہونا، کھایا جانا۔ ــــ: ایک ہونا، ملنا، آمیزش ہونا، تلمیج: مختصر نویسی، شارٹ ہینڈ، سٹیوگرافی، ادماج فی: میں ڈالنا، متحد کرنا، ختم کرنا، شامل کرنا، الحاق ــ جذب کرنا، سمونا، رچ بس جانا۔ اندماج فی: میں ڈلنا، متحد ہونا، ضم ہونا، انضمام، ادغام سے الحاق ایک ہونا، میں جذب ہونا، رچ بس جانا۔ مُدْمَج: مضبوط، ٹھیک، پیوست کیا ہوا، اچھی طرح چنایا جمایا ہوا، جامع، پرمعنی۔ مُنْدَمِج: مضبوط، سخت، اچھی طرح چنایا جمایا ہوا۔ دَمَجَانَۃ: نیز (دامجانۃ) جمع دامجانات: بڑی بوتل جس کے گرد تنکوں کا خول ہو۔

دمخ: دَمَخَ ـ دَمْخًا: اونچا ہونا، ــ راسَہٗ: کا سر پھوڑنا۔

○ دَمْدَمَ: بڑبڑانا، بڑبڑ کرنا، گرجنا، غرانا، غصہ کی آواز نکالنا، گرج کر کہنا، دَمْدَمَۃ: جمع دَمْدَمَات: غراہٹ، گرج، بڑبڑاہٹ، بڑبڑانے کی آواز، گرج، گڑگڑاہٹ، گڑگڑانے کی آواز۔

دمر: ۱۔ دَمَرَ ـ دُمُورًا و دَمَارًا و دَمَارۃً: ہلاک ہونا، ــ دُمُورًا علیہم: لوگوں کے پاس بغیر اجازت آنا، برے ارادے سے اچانک آنا۔ دَمَّرَهم و دَمَّرَ

nnarfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

علیھم کو ہلاک کرنا۔

۲۔ دَامَرَ اللیل رات بھر جاگنا۔

۳۔ تدمر شام کے اس علاقہ میں واقع ایک شہر جس میں گھاس اگا ہوا تھا۔ آج کل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ انگریزی میں اسے (Palmyra) کہتے ہیں۔

• التدمری تدمر سے منسوب، تدمر کا، تدمر کے متعلق۔ (ح) سخت گوشت نوٹے ہوئے چنگل والا ایک جنگلی چوہا۔ لیکم، کہا جاتا ہے۔ ماشی الدار تدمری گھر میں کوئی بھی نہیں۔

○ دمر دُمُورًا و دمارًا و دَمارةً ہلاک ہونا، تباہ ہونا، برباد ہونا۔ دَمَّـــرہ کو تباہ و برباد کرنا، منہدم کرنا، مٹا دینا، فنا کر دینا، نیست و نابود کرنا، غارت کرنا۔ تدمّر کا تباہ ہونا، منہدم ہونا، برباد ہونا، غارت ہونا۔ اندمر تباہ و برباد ہونا، نیست و نابود ہونا، فنا ہونا، مٹ جانا۔ دمار تباہی، بربادی۔ تدمیر فنا، انہدام، ہلاکت، فنا کرنا، ہلاک کرنا۔ اندمار شکست فاش، شکست، ہار، تباہی فنا، مٹنا۔ مُدَمِّرہ جمع مُدَمِّرات بحریہ کا تباہ کن جہاز۔

○ دَمَّـــور چھینٹ جیسا گاڑھا کپڑا۔ دَمُّـــوری چھینٹ جیسے گاڑھے کپڑے کا یا اس سے متعلق۔

○ دمیرۃ دریائے نیل کا سیلابی موسم۔

○ لادُومری بمعنی لاتدمری کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ذی روح زندہ شخص نہیں۔

○ تدمری عموماً تلفظ تدمری کہا جاتا ہے۔ کوئی ایک، کوئی شخص۔

دمس: ا۔ دَمَس دَمْسًا و دُمُوسًا الظلامُ او اللیلُ: تاریکی یا رات کا گھپ اندھیری ہونا۔ صفت: دَامِس - دَمْسًاهُ: کو ڈھانپنا، دفن کرنا، چھپانا۔ علیہ السِرَّ او الخبرَ سے بھید یا خبر چھپانا، دَمَّسَہٗ: کو ڈھانپنا، دفن کرنا، چھپانا۔ دَامَسَ مُدامسةً الشیءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ اَدْمَـــسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو چھپانا۔ اِنْدَمَسَ: تہ خانہ میں داخل ہونا۔ الدَمَس و الدِمَیس: پوشیدہ، ڈھانپا ہوا۔ الدِمَاس: ہر چھپانے یا ڈھانپنے والی چیز۔ مشکیزہ پر ڈالی جانے والی چادر۔ الدَامِس (فا): تاریک۔ کہا جاتا ہے۔ لیل دَامِسٌ: تاریک رات۔ الدَامُوس: جمع دَوَامِـــیس: شکاری کے چھپنے کی جگہ۔ المُدَمَّس (ط): سرکہ، نمک اور تیل میں نیم پخت لوبیا۔ الدَیْماس و الدِیماس: جمع دَیَامِیس و دَمَامِیس: تہ خانہ، قبر، حمام۔ الدَیَامِیس: تاریک تہ خانے۔ لیلٌ اُدْمُوس: تاریک رات۔

۲۔ دَمَسَ دَمْسًا و دُمُوسًا الموضعُ: کسی جگہ کا مٹ جانا۔ دَمْسًا بینھم: لوگوں میں صلح کرانا۔

۳۔ دَمِسَ دَمَسًا یدُہٗ: کے ہاتھ کا گندگی سے آلودہ ہونا۔ تَدَمَّسَ: آلودہ ہونا۔

۴۔ الدِمْس: شخص، کوئی شخص، شبیہ صورت کہا جاتا ہے۔ رایتُ دِمْسًا: میں نے ایک صورت دیکھی۔ میں نے ایک شخص دیکھا۔ الدُمُس من الاُمُور واحد دَامِس: بڑے کام۔ کہا جاتا ہے۔ جاء نا باُمورٍ دُمْسٍ: وہ بڑے کام لے کر ہمارے پاس آیا۔

۵۔ الدُمُسْتُق: جمع دَمَاسِق: یونانی فوج میں جرنیل (لاطینی لفظ)

○ دَمَس ـہ کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ ـــہ فی الارض: کو زمین میں دفن کرنا۔ دَمَّـــسَہ: کو زمین میں دفن کرنا، دِمْس کوئلے کی راکھ، راکھ، بھبوت۔ دَمَاسَۃ: تاریکی۔ اَدْماس تنگ و تاریک مکانات، جھونپڑے، جھونپڑیاں۔ دَمُوس: جمع دَمَامِیس غار، کھوہ، گپھا، کہف، دِیْمَاس و دَیْمَاس و دَیْمُوس: جمع دَیَامِیس کمین گاہ، پناہ گاہ، مضبوط زمین دوز قلعہ، قید خانہ، کال کوٹھری، تہ خانہ۔ دَامِس: گہرا اندھیرا، بہت تاریک، تاریک، دھندلا۔ فولٌ مُدَمَّس: نیم پخت لوبیا۔

دمش: ا۔ دَمْشَقَ الامرَ: کسی کام کو عجلت میں ختم کرنا۔ دَمْشَقُ الیدین: تیز دست، پھرتیلا۔

۲۔ دَمْشَقَ الشیءَ: کو سجانا، کی آرائش کرنا۔

۳۔ تَدَمْشَقَ: دمشق (شہر) میں آنا۔ دِمَشْق و دِمِشْق: شام کا دارالحکومت۔ دِمَشْقِیّ: دمشق کا، دمشق کے متعلق جمع دَمَاشِقة۔

○ مُدَمْشَق: بیل بوٹے والا (ریشمی کپڑا) مشجر، دمشقی طرز زندگی اپنایا ہوا، شہری، شہر کا سا۔

دمص: دَمَصَ دَمْصًا فی الشیء: میں جلدی کرنا، ـــت الکلبۃُ بجروھا: کتیا کا وقت سے پہلے بچہ جن دینا۔

دَمِصَ دَمَصًا: کے سر کے بالوں کا کم ہونا، ابروؤں کا سروں پر باریک اور درمیان سے موٹا ہونا۔ صفت اَدْمَص مونث دَمْصاء جمع دُمْص۔

دمع: ا۔ دَمَعَ دَمْعًا و دَمِعَ دَمَعًا و دَمَعَانًا و دُمُوعًات العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِسْتَدْمَعَ: کی آنکھوں کا آنسو بہانا۔ الدَمْع: جمع دُمُوع و اَدْمُع آنسو۔ دَمْعَۃُ الکرم: شراب۔ مکانٌ دامِعٌ: نمناک، تر جگہ، شَجَّۃٌ دَامِعَۃٌ: خون بہانے والا زخم۔ امراۃ دَمِعَۃ و دَمِیعٌ: جمع دَمْعَی و دمائِع: جلد رو پڑنے اور بہت آنسوؤں والی عورت۔ رجلٌ دَمِیع جمع دُمَعَاء و دَمْعی: جلد رو پڑنے والا اور بہت آنسوؤں والا مرد۔ المِدْمَع: جمع مَدامِع (ع): آنسوؤں کی جگہ اور آنسو بہنے کی جگہ۔ الدُمَّاع: بیماری یا بڑھاپے کے سبب آنکھ سے بہنے والا پانی، درخت کاٹنے پر اس سے بہنے والا رس یا مد۔ اللَمَّاع: نمناک جس سے تری ظاہر ہو۔ والدَمُوع: بہت آنسوؤں والا، یومٌ دَمَّاعٌ پھوار والا دن۔

۲۔ دَمِعَ دَمَعًا و دَمَعَانًا و دُمُوعًا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ اَدْمَعَ الاناءَ: برتن کو کناروں تک بھر دینا۔ قَدَحٌ دَمْعانٌ: لبالب بھر کر چھلکنے والا پیالہ۔

○ دَمَع دَمْعًا: آنکھ کا پانی دینا۔ آنسو بہانا۔ اَدْمَعَ: رلانا، آنسو بھارنا، آنسو بہانا، دَمْع: آنسو۔ دَمْعَۃ: ایک آنسو، آنسو کا قطرہ۔ دِمْعَۃ: آب جوش، یخنی، شوربہ، قُنبُلَۃٌ دَمْعِیَۃٌ: آنسو گیس بم۔ دَمِعَۃ و دَمِیع جمع دَمْعَیً و دَمَائِع: رو پڑنے والا، آبدیدہ اکثر رونے والا، پر اشک، اشکبار، نمناک، بات بات پر رونے والی۔ دَمُـــوع و دَمَّاع: اشکبار، آبدیدہ، پر اشک، رو پڑنے والی آنکھیں) مَدمع جمع مَدَامِع: اشک آور نال۔

دمغ: ا۔ دَمَغَ دَمْغًاہٗ: کو دماغ تک زخمی کرنا، صفت مفعولی: دَمِیغ و مَدْمُوغ دَمَغَتْہُ الشمسُ: سورج کا دماغ کو تکلیف پہنچانا۔ شَجَّۃٌ دامِغَۃٌ: دماغ تک پہنچا ہوا زخم۔ الدِمَاغ: جمع اَدْمِغَۃ (ع ا): دماغ سر کا بھیجا۔ اُمُّ الدِمَاغ (ع ا): دماغ پر لپٹی ہوئی باریک جھلی۔

۲۔ دَمَغَ دَمْغًاہٗ: پر غالب آنا، کو مغلوب کرنا۔ ـــ الحقُّ الباطلَ: حق کا باطل کو مٹانا، بے حقیقت کرنا۔ اَدْمَغَہٗ اِلی کذا: کو کا حاجتمند بنانا۔

۳۔ دَمَغَ دَمْغًاہٗ: کو داغ لگانا، داغی کرنا (آگ سے)۔ الدَمْغَۃ: آگ سے لگایا ہوا داغ۔ دمغۃ الاصبع: انگوٹھے کا نشان۔

۴۔ دَمَّغَ الاطعمۃَ بالدسم: کھانے میں چربی یا چکنائی ڈالنا۔ اَدْمَغَ الطعامَ: کھانا نگلنا۔ ـــ الشیءَ: چیز کو داخل کرنا۔

○ دَمَـــغَ ـہ: (جھوٹ، غلطی، جھوٹے الزام) کی تردید کرنا، کو غلط ثابت کرنا، کالعدم قرار دینا، (حق کا باطل پر) فتح حاصل کرنا۔ دِمَـــاغ جمع اَدْمِغَۃ: دماغ، ذہن۔ حُجَّۃٌ دامِغَۃٌ: قوی، زوردار، معقول یا دل کو لگتی ہوئی دلیل، بحث۔ شَہَادَۃٌ دامِغَۃٌ: ناقابل تردید شہادت، گواہی۔ دَمَغَ دَمْغًا ہ: پر مہر لگانا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سونے یا چاندی کی چیزوں) پر مہر لگانا۔ (جانور) کو داغنا، پر داغ لگانا۔ دَمْغ: مہر لگانا۔ دمغ المصوغات: سونے چاندی کی اشیاء پر مہر لگانا۔ دَمْغَة: مہر (سونے چاندی کی اشیاء پر) مہر، وَرَق دَمْغَة: ٹکٹ لگا کاغذ، اشٹام۔ مَدْمُوغ: مہر لگا ہوا، مہر کا حامل، مہر والا۔

دمق: ۱۔ دَمَقَ ـُ دُمُوقاً علیه: پر بغیر اجازت داخل ہونا، کے پاس کسی کمرہ وغیرہ میں اجازت لئے بغیر جانا۔ ـُ دَمْقاً و دَمَّقَ و أَدْمَقَ الشیءَ فی الشیء: ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا۔ اِنْدَمَقَ: نکلنا، باہر آنا، ـ علیه: پر بغیر اجازت داخل ہونا (ضد)۔ الدَمِیق: دوسری چیز میں داخل کیا ہوا۔ المُنْدَمَق: داخل ہونے کی جگہ۔

۲۔ دمَقَ ـُ دَمْقاً الشیءَ: کو چرانا۔

۳۔ دمق ـ دَمْقاً فاہ: کے دانت توڑ دینا۔

۴۔ دمَقَتِ السماءُ بالمطر: آسمان کا پھوہار برسانا، یعنی پوہار پڑنا۔ ترشح ہونا۔ (عامی زبان میں)

۵۔ الدَمَق: تیز ہوا جس کے ساتھ برف برسے۔ (فارسی لفظ) الدَامِق و الدَمُوق من الرحال: برا، بے فیض آدمی۔

۶۔ الدِمَقْس و الدِمْقَاس: سفید ریشم، دیباج۔ ثوبٌ مُدَمْقَس: ریشم سے بنا ہوا کپڑا۔

○ دِمُقْرَاطِیّ: جمہوری، جمہوری حکومت کا حامی، جمہوری جماعت کا رکن۔ دِمُقْرَاطِیَّة: جمہوریت، جمہوری حکومت، عوامی راج، دِمَقْس: خام ریشم۔ دِمَقْسِیّ ریشمی، نرم، چمکدار، ریشمی لباس میں ملبوس۔

دملك: ۱۔ دَمَكَ ـُ دُمُوكاً الأرنبُ: خرگوش کا تیز دوڑنا۔ ـ الشیءَ: کو پیسنا۔ الدَمُوك: تیز گذر جانے والا کہا جاتا ہے۔ رَحیً دَمُوکٌ: تیز پیسنے والی چکی۔ الدَامِکَة: جمع دَوَامِك: مصیبت۔ رَحیً دَمَکْمَك: بہت پیسنے والی چکی۔

۲۔ دَمَكَ ـُ دُمُوكاً الشیءُ: چکنا اور چمکدار ہونا۔ المِدْمَك: روٹی چوڑی کرنے کا بیلن۔

۳۔ دَمَكَ ـُ دَمْکاً الرشاءَ: رسی بٹنا۔ الدَمَکْمَك: بہت مضبوط۔ المِدْمَاك: جمع مَدَامِیك (ب): عمارت میں اینٹوں یا پتھروں کا ردا۔

○ مَدْمُوك و مُدْمَك: مضبوط کسا ہوا، تنا ہوا۔

دمل: ۱۔ دَمَلَ ـُ دَمْلاً و دَمَلاناً الارضَ: زمین میں کھاد وغیرہ ڈال کر درست کرنا۔ ـ بینهم: میں صلح کرانا۔ ـ ـُ دَمْلاً الدُمَّل: پھوڑے کو اچھا کرنا۔ دَمِلَ ـَ دَمَلاً و اِنْدَمَلَ و اِدَّمَلَ الجرحُ: زخم کا اچھا ہونا۔ دَامَلَهُ: کی مدارات کرنا، کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ دَوْمَلَ بینهم: میں صلح کرانا۔ تَدَمَّلَ المکانُ: جگہ کا کھاد سے درست ہو جانا۔ تَدَامَلَ القومُ: لوگوں کا آپس میں صلح کرنا۔ الدَمْل (مص): نرمی۔ الدُمَل و الدُمَّل: واحد دُمَّلَة: جمع دَمَامِل و دَمَامِیل: پھوڑا، پھنسی۔ الدَمَال: کھاد (کہا جاتا ہے هذا دَمَالُ ذاك: یہ اس کا مصلح ہے۔ یہ اس کی اصلاح کرنے والا ہے۔) دریا کا بہاؤ میں لایا ہوا خس و خاشاک۔ پرانی سڑی ہوئی سیاہ کھجوریں، جانوروں کی مینگنیاں اور مٹی جو ان کے پاؤں میں روندی گئی ہوں۔ الدَمَّال: زمین کو کھاد ڈال کر درست کرنے والی چیز۔

۲۔ دَمْلَجَ دَمْلَجَةً و دِمْلاجاً الشیءَ: کو اچھی طرح ڈھالنا۔ الدُمْلُج و الدِمْلَج جمع دَمَالِج و الدُمْلُوج: جمع دَمَالِیج: بازو بند، پہنچی، کہا جاتا ہے۔ القی علیه دَمَالِجَهُ: اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈالا۔

۳۔ دَمْلَجَ هُ: کو لڑھکانا۔

۴۔ دَمْلَقَ هُ: کو چکنا کرنا، ہموار کرنا، حجرٌ دَمْلَقٌ و دُمْلِقٌ و دُمَالِقٌ: چکنا پتھر۔

۵۔ دَمْلَكَ الشیءَ: کو چکنا کرنا۔ تَدَمْلَكَ: چکنا ہونا۔ ـ الثدیُ: پستان کا گولائی میں ابھرنا۔ الدُمْلُوك: چکنا گول پتھر۔

○ دَمَلَ ـُ دَمْلاً و دَمَلاناً هُ: زمین کو قابل کاشت کرنا، زرخیز بنانا، بارآور بنانا اچھی فصل دینے والی بنانا، زمین میں کھاد ڈالنا، زمین کی قوت نمو بڑھانا۔ دَمِلَ ـَ دَمَلاً زخم کا مندمل ہونا، اچھا ہونا، زخم بھرنا، زخم پر انگور آنا، اِنْدَمَلَ: زخم کا مندمل ہونا، اچھا ہونا، بھرنا، زخم پر انگور آنا۔ (زخم، خراش، دکھتی جگہ) کا پکنا، میں مواد پڑنا، کا گلنا میں پیپ پڑنا۔ دُمَّل: (اسم جنس واحد دُمَّلَة جمع دَمَامِل و دَمَامِیل: پھوڑا، دنبل، پھنسی، زخم، خراش، دکھتی جگہ کو مڑا، گلٹی، سخت ابھار، ناسور، کھلا زخم راخ برائی، طاعونٍ دُمَّلِیّ: طاعون، پلیگ، دُمْلُج: جمع دَمَالِج: کڑا کنگن، چوڑی، پہنچی۔

دمن: ۱۔ دَمَنَ ـُ دَمْناً الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ دَمِنَ ـَ دَمَناً النخلُ: کھجور کا سیاہ اور بدبودار ہونا۔ دَمَّنَ البعیرُ المکانَ: اونٹ کا کسی جگہ مینگنیاں کرنا۔ تَدَمَّنَ المکانُ او الماءُ: کسی جگہ یا پانی میں اونٹوں، بکریوں وغیرہ کی مینگنیاں کرنا۔ الدَمَن (مص): کھجور کے درخت کی بدبو اور سیاہی۔ الدِمْن و الدَمَان: گوبر، کھاد، کھجور کی بو، راکھ، کہا جاتا ہے۔ هو دِمْنُ مال: وہ مال کا منتظم ہے۔ الدِمْنَة: جمع دِمَن و دِمْن: گھر کے نشانات حوض میں بقیہ پانی یا حوض کے قریب گوبر و مٹی کا ملا ہوا کوڑا، خضراءُ الدِمَن و خُضْرَةُ الدِمَن: گھورے پر اگا ہوا سبزہ۔ یہ دونوں مثالیں ان چیزوں کے لئے بولی جاتی ہیں جن کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو۔ اسی سے یہ قول ہے۔ اِیَّاکم و خضراءَ الدِمَن: خوبصورت عورت سے بچو جس کی اٹھان میں برائی ہو۔

۲۔ دَمِنَ ـَ دَمْناً علیه: سے کینہ رکھنا۔ دَمَّنَ بابَ فلان: کے دروازے کو نہ چھوڑنا۔ اَدْمَنَ الشیءَ: کو ہمیشہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ مُدْمِنُ خمرٍ: ہمیشہ شراب پینے والا آدمی۔ شراب کا عادی۔ الدِمْنَة: جمع دِمَن و دِمْن: دل میں بیٹھا ہوا پرانا کینہ۔ کہا جاتا ہے۔ فی قلبه دِمْنَةٌ: اس کے دل میں پرانا کینہ ہے۔

۳۔ دَمَّنَ فلاناً: کسی کو رخصت دینا۔

○ دَمَنَ ـُ دَمْناً هُ: زمین کو زرخیز بنانا، زمین میں کھاد ڈالنا، اَدْمَنَ هُ / علی: خود کو کے سپرد کرنا، خود کو کی نذر کرنا، کے لئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، کو تندی سے کرنا، میں حصہ لینا، شریک ہونا، کو اختیار کرنا۔ ـ علی: کا عادی ہونا، لتیا ہونا، دھتیا ہونا۔ دِمْن (اسم جنس واحد دمنة:) جمع دِمَن: کھاد، کیمیائی کھاد، گوبر، لید۔ دِمْنَة: جمع دِمَن: گھر کے نشان، بچے کھچے حصے، کھنڈر۔ دَمَان: کھاد، کیمیائی کھاد، گوبر، لید۔ اِدْمَان: عادت، لت، دھت، زیادتی، بے اعتدالی، خلل دماغ، خبط، مالیخولیا، جنوں سودا، جوش اور انہماک، نشہ۔ اِدمان المُسکرات: اعتدال سے بڑھ کر نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے جسمانی ابتری۔ مُدْمِن علی: کا عادی، لینا، دھتیا۔

○ دُمَان: دیکھو دومان

○ دَمَنْهُور: شمالی مصر کا ایک شہر۔

دمه: دَمِهَ ـَ دَمَهاً الرملُ: ریت کا سخت گرم ہونا۔ دَمَهَتْهُ الشمسُ: کو دھوپ لگ جانا، جلانا۔

دمی: ۱۔ دَمِیَ ـَ دَمًی و دُمِیّاً الجرحُ: زخم سے خون نکلنا صفت۔ دَمٍ۔ دَمَّی تَدْمِیَةً الجرحَ: زخم سے خون نکالنا۔ اَدْمَی اِدماءً الجرحَ: زخم سے خون نکالنا۔ ـ الرجلَ: کا خون بہانا۔ اِسْتَدْمَی الرجلُ: سر جھکا کر ناک سے خون بہانا۔ ـ الذبیحَ: کا خون لینا۔ الدَّم: خون۔ اس کی اصل دَمْیٌ: ہے۔ بعض کے نزدیک دَمْوٌ ہے۔ لام کلمہ حذف کیا گیا۔ کبھی اس کو میم سے بدل کر دمّ مُشدَّد: بولتے ہیں۔ اس کا تثنیہ دَمَان و دَمَیَان و دَمَوَان: جمع دِماء و دُمِیّ: اور تصغیر دُمَیّ: اور نسبت کے لئے کہتے ہیں۔ الدَمِیّ و الدَمَوِیّ: (کہا جاتا ہے رجلٌ ذو دمٍ خون کا دعویدار) (ح): بلی۔ دم الأخوین (ن): سرخ رنگ کرنے کا سامان، درخت

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کی چھال جو رنگنے کے کام آتی ہے۔ الـدَمَة: خون کا ٹکڑا۔ الـدُمْيَة: جمع دُمَـى: خون کی طرح سرخ کی ہوئی آراستہ پتلیاں، بت الـدامی (فـا): جس کا خون بہتا ہو۔ دامـــي الشـــفة: غریب یا مانگنے کا حریص۔ الدامِيَة: الدامی کا مؤنث: زخم یا چوٹ جس سے خون بہے۔ الـمُدَمَّى: تیر جس پر خون خشک ہو گیا ہو، بہت سرخ رنگ گھوڑا وغیرہ۔ الـدَامـيـاء: خیر و برکت۔

۲-دَمـىٰ لـفلان: کے لئے راستہ آسان کرنا، کو قریب کرنا، اِسْتَدْمیَ من غریمه: قرض دار سے قرض نرمی سے وصول کرنا۔

○ دَمِيَ -دَمىً: خون بہنا، دَمَّى و اَدْمیَ: خون بہانا۔ دامٍ: بہتا خون، لہولہان، خون جیسا، خون آلود، خونخوار۔ مَـدَمَّـى مونث مدماه: خونی، خون رنگ کا۔

○ دُمْيَة: جمع دُمـــىً: بت، مورت، مجسمہ، چھوٹا بت، یا مجسمہ، تصویر، تصور، مثالی پیکر، پتلا، کٹھ پتلی، پتلی، گڈا، گڑیا۔

○ دِمْيَاط: شمالی مصر کا ایک شہر۔

دنّ: ا-دَنَّ -دَنًّا الذبابُ: مکھی کا بھنبھنانا۔ -دنيناً الرجلُ: گنگنانا، غیر مفہوم بات کرنا۔ دَنَّـنَ الـذبـابُ: مکھی کا بھنبھنانا۔ اللِنَّة (ح): چیونٹی کی طرح کا ایک جانور۔

۲-دَنَّ -دَنًّا: جھکی ہوئی کمر والا ہونا، کوز پشت ہونا۔ صفت: اَدَنّ مؤنث دَنَّاء جمع دُنّ بيتٌ اَدَنّ: پست مکان۔

۳-اَدَنَّ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ الدَنّ: جمع دِنان: بڑا مٹکا جو زمین میں گھڑا کھود کر رکھا جا سکے۔ الـدَنِّيَّة: کلاہ۔

○ دَنَّ -دَنًّا و دنيناً: مکھی وغیرہ کا بھنبھنانا۔ دَنٌّ و دَنين: بھنبھناہٹ۔ دَنّ: جمع دِنان: شراب کی مٹی کی صراحی۔

دنا: دنأ -وَ دَنُؤَ - دُنُوءَةً و دَناءَةً: ذلیل و خسیس ہونا۔ صفت: دَنِيء جمع اَدْنـاء و دُنَآء۔ دَنِئَ -دَنَأً الـرجلُ: کبڑا ہونا۔ صفت: اَدْنَا مؤنث دَنـاى۔ اَدْنَـأ: ادنی سواری پر سوار ہونا۔ دَنَّـأهُ: کو کمینہ بنانا۔ تَدَنَّأهُ: کو کمینگی پر اکسانا۔ الدنيئة: برائی، نقص۔

○ دَنَأَ- و دَنُؤَ -دَنُوءَةً و دَناءَةً: کمینہ ہونا، ذلیل ہونا، حقیر ہونا، خبیث ہونا، پاجی ہونا، قابل نفرت ہونا، فرومایہ ہونا، سفلہ ہونا۔ دَنِيء: جمع اَدْنِيـاء و اَدْنَاء: کمینہ، ذلیل، حقیر، خبیث، پاپی، قابل نفرت، فرومایہ، سفلہ، ادنی، گھٹیا، کم رتبہ، زیردست، سفلی، دوسرے درجہ کا خراب قسم کا۔ اَدْنَى: زیادہ نیچا، زیادہ کمینہ، ادنی تر، حقیر تر، خراب قسم کا۔ دَنَاءَة: کمینگی، سفلہ پن، خباثت، کمینہ پن، ذلت، بدمعاشی، گھٹیا پن۔

○ دَنْتِلاّ و دَنْتِلَّة: ڈوری، فیتہ، لیس، جھالر، زری کا کام۔

دنب: الدِنَّب و الدِنَّبَة و الدِنَّابَة: پستہ قد، بونا۔

دنج: دَنَجَ- دِناجًا الامرَ: کام کو مضبوطی سے یا پختگی سے کرنا۔ الدُنُج: دانا لوگ۔

○ دِنْجِل جمع دَنَاجِل: دھرا، دھری، دھرے کا ڈنڈا، گول ڈنڈی۔

دنح: دَنَحَ -دُنُـوحًـا و دَنَّـحَ: ذلیل ہونا، سر جھکانا۔ الـدِنْـح: مسیحی تہوار جو 6 جنوری کو مشرق کے تین داناؤں کے بیت لحم میں حضرت عیسیٰ مسیح کے پاس آنے کی یاد میں منایا جاتا ہے اس وقت حضرت مسیح ابھی بچے تھے۔ عربی میں اسے عید الغطاس کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ سریانی دِنحا: کا معرب ہے جس کا معنی ظہور ہے۔

دنخ: دَنَخَ -دَنَخَانًا: بوجھ کی وجہ سے سست چلنا۔ دَنَّـخَ: منکسر و فروتن ہونا۔ سر جھکانا، اپنے گھر میں رہنا۔ المُدَنَّخ: فحش گو، بدزبان۔

○ دَنْدُرْمَه: آئس کریم (ترکی لفظ)

○ دَنَادِشَة: عام لوگ، غیر اہم لوگ۔

دند: ا- دَنْدَلَ هُ: کو لٹکانا، تَدَنْدَل: لٹکنا (عامی زبان میں)

۲- دَنْدَنَ دَنْدَنَةً الذبابُ: مکھی کا بھنبھنانا۔ ـــ الرجلُ: گنگنانا، غیر مفہوم کلام، بولنا، ـــحولَ الماءِ: پانی کے گرد گھومنا۔ الدِنْدِن: گنگناہٹ، بھنبھناہٹ، کہنگی سے سیاہ ہو جانے والا پودا۔

○ دَنْـدَنَ: بھنبھنانا، گنگنانا، دھیرے دھیرے گانا، دھیمے سروں میں گانا، کراہنا، بہت آہستہ کہنا۔ دِنْدِى: ترکی مرغ۔

دنر: دَنَّرَ تَدْنيرًا الدينارَ: دینار ڈھالنا۔ ـالوجهُ: چہرہ کا چمکنا۔ دُنَّرَ: بہت دیناروں کا مالک ہونا۔ الدِينار جمع دَنَانِير: سونے کا ایک پرانا سکہ (لاطینی) حَشِيشَةُ الدينار: ایک قسم کا پودا۔

دنس: دَنِسَ -دَنَسًا و دَنَسَةً عرضُهُ او ثوبُهُ او خُلقُهُ: عزت و اخلاق کا عیب دار ہونا، کپڑے کا میلا ہونا۔ صفت: دَنِس جمع اَدْنَاس و مَدَانِيس دَنَّسَ هُ: کو میلا کرنا، کہا جاتا ہے۔ دَنَّسَهُ سوءُ خُلقِهِ: اس کی بدخلقی نے اس کو عیب دار کرایا۔ تَدَنَّسَ: میلا کچیلا ہونا۔ الدَنَس (مص): جمع اَدْنَاس: میل کچیل۔ المَدَانِس: عیوب، گندی جگہیں۔ کہا جاتا ہے۔ هـو يتـصـوّن مـن الاَدْناس و المَدانِس: وہ عیوب سے اپنا دامن بچاتا ہے۔

○ دَنِـسَ -دَنَسًـا: گندا ہونا، داغدار ہونا، میلا ہونا، غلیظ ہونا، آلودہ ہونا۔ دَنَّـسَ هُ: کو گندا کرنا، داغدار کرنا، میلا کرنا، غلیظ کرنا، آلودہ کرنا، خراب کرنا، ناپاک کرنا، نجس کرنا، کی ذلت کا موجب ہونا، کی بےعزتی کرنا، بےادبی کرنا۔ تَـدَنَّـسَ: گندا ہونا، داغدار ہونا، میلا ہونا، غلیظ ہونا، آلودہ ہونا، خراب ہونا، ناپاک ہونا، نجس ہونا، بےادبی کیا جانا، دَنَس: جمع اَدْنَاس: میلا پن، گندگی، غلاظت، خستگی، زبوں حالی، داغ، دھبہ، غلطی، خطا، قصور، رخنہ۔ دَنِـس: جمع اَدْنَـاس و دُنَسـاء: میلا کچیلا، گندا، داغدار، آلودہ، برا، خراب، فحش، بدزبان، بےحرمتی کیا ہوا۔ تـدنيـس: آلودگی، بےحرمتی، گندا کرنا، دھبا لگانا، داغ لگانا، نجاست، بےعزتی، بےحرمتی۔

دنع: ا- دَنَعَ -دُنُـوعًـا و دَنَاعَةً: کمینہ ہونا، بےخیر ہونا، صفت- دانـع و دَنـع و دَنِع و دَنِيع و دَنِيـعَة ـ دَنِعَ -دَنَعًا: ذلیل ہونا، کمینہ ہونا۔ رجلٌ دَنَعَةٌ: بےخیر آدمی۔ کہا جاتا ہے- هـو من دَنَعِ الناس: وہ رذیل لوگوں میں سے ہے۔

۲-دَنِعَ -دَنَعًا: بھوکا ہونا، بھوک محسوس کرنا۔

۳- اَدْنَعَ: نیکوں کی راہ چلنا۔

دنف: ا- دَنِفَ -دَنَفًا المريضُ: بیمار کا شدت مرض سے قریب المرگ ہونا۔ ـــت الشمسُ: سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا، زرد پڑنا۔ ـــ الامرُ: کام کا نزدیک ہونا۔ اَدْنَفَ المـريضُ: بیمار کی بیماری کا شدید ہونا، بیمار کا قریب المرگ ہونا۔ ـــ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ زرد پڑنا۔ ـــ هُ المرضُ: بیماری کا کسی کے لئے برداشت کرنا مشکل ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو قریب کرنا۔ الـدَنَف (مص): سخت مزمن بیماری، مزمن بیماری کا مریض۔ (سب کے لئے یکساں ہے) کہا جاتا ہے۔ رجـلٌ دَنَفٌ و امـرأة دَنَفٌ و هم دَنَفٌ: مزمن بیماری والا مرد، مزمن بیماری والی عورت، وہ مزمن بیماری والے ہیں۔) کہا جاتا ہے- كـادت الشمسُ تكون دَنَفًا: سورج غروب ہونے کے قریب ہے- الـدَنِف: جمع اَدْنـاف: مؤنث دَنِفَة: جمع دَنِفات: لمبی بیماری کا مریض۔

۲- دَنْفَشَ: ترچھی نگاہ سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا۔

○ دَنِفَ -دَنَفًا و اَدْنَفَ: سخت بیمار ہونا۔

دَنِف: جمع اَدْنَـاف: سخت بیمار۔ دَنَف: لمبی بیماری۔ مُدْنِف و مُدْنَف: کمزور، دبلا پتلا۔

دنق: ا- دَنَقَ -دُنُـوقًا: حریص ہونا، باریک امور نکالنے کا حریص ہونا۔ صفت- دَنِيق: جمع دُنُق۔ دَنَّقَ الیـه النـظرَ: پر ٹکٹکی لگانا، کو گھورنا۔ ـــ الشيءَ: کو پوری

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

طرح لینا۔
۲۔دَنِقَ۔دَنَقًا و دَنِیقًا: سردی سے مرجانا۔ دَنَّقَ: سردی سے مرجانا صفت: مُدَنِّق ۔ الوجهُ: غم یا بیماری سے چہرے کا کمزور ہوجانا۔الرجلُ: مرنا،۔ للموت: قریب المرگ ہونا۔ ۔ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ ۔ت العینُ: آنکھ کا دھنس جانا۔
۳۔ الدَانِق: احمق، چور، ـــــ و الدَانَق: جمع دَوَانق و دَوَانِیق: درہم کا چھٹا حصہ۔ الدَنُقَة: گیہوں میں ایک قسم کا دانہ۔
۴۔ دَنْقَسَ: کنکھیوں سے دیکھنا، ترچھی نظر سے دیکھنا، ۔ بینهم: لوگوں میں فساد ڈالنا۔
○ دُنْقُلَة: شمالی سوڈان کا دریائے نیل کے کنارے ایک شہر۔
دنك دَنْكَسَ في بيته گھر میں چھپ کر بیٹھ رہنا اور لوگوں کی حاجتوں کے لئے باہر نہ نکلنا۔
○ دِنْکِل: بمعنی دِنْجِل: (دیکھو دنجل)
○ دَنْمَرك: ڈنمارک Denmark
دنا: ۱۔ دَنَا یَدْنُو دُنُوًّا و دَنَاوَةً للشی و منه و الیه: کے قریب ہونا۔ صفت: دَانٍ: جمع دُنَاة۔ دَنَّی تَدْنِیَةً ہٗ: کو قریب کرنا۔ ـــــ في الامور: ہر چھوٹے بڑے کام کے پیچھے لگنا۔ دَانَی مُدَانَاةً القیدَ: بیڑی کو تنگ کرنا۔ ۔ بین الامرین: دونوں امروں کے وسط میں ہونا۔ ۔ الامرَ: امر کے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ اَدْنَی اِدْنَاءً: قریب آنا، قریب ہونا۔ ۔ہٗ: کو قریب کرنا۔ ۔ الستر: پردہ لٹکانا۔ تَدَنَّی: تھوڑا تھوڑا قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ بعیدٌ یَتَدَنّی خیرٌ من قریب یتبعّد: تھوڑا تھوڑا کر کے قریب ہونے والا بعید اس قریب سے بہتر ہے جو دور ہٹتا جائے۔ تَدَانَی تَدَانِیًا القومُ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ اِدَّنَی: قریب ہونا۔ اِسْتَدْنَی ہٗ: سے قریب آنے کی درخواست کرنا۔ الدُنیا: جمع دُنًی: موجودہ زندگی، نسبت کے لئے۔ دُنْیَوِيّ و دُنْیَاوِيّ و دُنْیِي۔: کہا جاتا ہے۔ هو في دنیا دانیة: وہ آسودہ زندگی میں ہے جو چاہتا ہے قریب سے لے لیتا ہے۔ هو ابنُ عَمٍّ دَنِی و دِنْیًا و دِنْیا و دُنْیَا و دِنْیَةً: وہ نسب سے متعلق ہونے والا چچا زاد بھائی ہے۔ نَاقَةٌ مُدْنٍ و مُدْنِیَة: وضع حمل کے قریب پہنچی ہوئی اونٹنی۔ الدَنَاوَة (مص): قرابت کہا جاتا ہے۔ بینهما دَنَاوَةٌ: ان دونوں کے درمیان قرابت ہے۔ الاَدْنُون: نسب میں قریب ترین رشتہ دار لوگ۔
۲۔ دَنِيَ یَدْنَی دَنًا و دَنَایَةً: گھٹیا اور ردی ہونا، صفت: دَنِّي: جمع اَدْنِیاء اَدْنَی اِدناءً: تنگ زندگی گذارنا۔ تَدَانَی ت ابلُهُ: کم اور کمزور اونٹوں والا ہونا۔ المُدْنَی (مفع) من الرجال: کمزور آدمی۔ الاَدْنَی جمع اَدَانٍ و اَدْنُون مؤنث دُنیا جمع دُنًی: دنی کا اسم تفضیل۔

○ دَنَا۔دُنُوًّا و دَنَاوَةً: نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ ۔ من / الی / ل: کے قریب آنا یا جانا کے پاس جانا۔ کے لگ بھگ ہونا، قریب ہونا۔ ـــــ: (وقت واقعہ کا) قریب آنا، نزدیک ہونا، سر پر کھڑا ہونا۔ دَنَا به من: کو کے قریب کرنا۔ دَنِیَ۔دَنًا و دَنَایَةً کمینہ ہونا، کمینہ بن جانا، برا ہونا، یا بن جانا، فرومایہ ہونا یا ہو جانا، ذلیل ہونا یا ہو جانا، قابل یا لائق مذمت ہونا، یا ہو جانا۔ دَنَّی ہ / ہ من: کو کے قریب کرنا۔ ۔ہ من: کو کے لگ بھگ کرنا۔ ـــــ في: میں مشغول ہونا، کی چھان بین کرنا، کو تن دہی سے کرنا۔ دَنَّی نفسَهُ: خود کو نیچا کرنا، ذلیل کرنا، دَانَی ہ / ہ: کے قریب ہونا، نزدیک ہونا، کے پاس جانا، کے لگ بھگ ہونا۔ ہ / ہ: کے معیار یا توقعات پر پورا اترنا۔ شیءٌ لا یُدَانَی: سب سے برتر شے۔ اَدْنَی: نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ ۔من / الی / ل: کے پاس جانا آنا کے نزدیک جانا، کے قریب آنا۔ ۔ہ / ہ من: کو کے قریب کرنا، قریب لیجانا۔ ۔ہ من: کو کے لگ بھگ کرنا۔ ۔ہ: کو نیچا کرنا، گرانا، (جیسے نقاب کو) تَدَنَّی الی: بتدریج کے پاس جانا۔ ـــــ: کمینہ ہونا، نیچے ہونا، جھکنا، مائل ہونا، خود کو ذلیل کرنا، نیچا کرنا۔ تَدَانَی: ایک دوسرے کے قریب ہونا، نزدیک ہونا، ایک دوسرے کے پاس جانا، باہم قریب ہونا، ۔من: کے قریب ہونا، کے لگ بھگ ہونا۔ اِدَّنَی: قریب ہونا، نزدیک ہونا، نزدیک آنا، قریب پہنچنا۔ اِسْتَدْنَی: زیادہ قریب ہونے کی خواہش کرنا۔ قریب تر ہونے کی کوشش کرنا۔ ـــــ ہ الی: کو کے یا اپنے قریب تر لانے کا خواہاں ہونا۔ ۔ہ: کے لئے ہاتھ بڑھانا۔ ۔ہ الیه: کے لئے کی دعا کرنا۔ دُنُوٌّ: آمد، پہنچ، رسائی، نزدیکی، قرب، قرابت، قریب ہونا، (کسی واقعہ وغیرہ کا) دَنِيّ: جمع اَدْنیاء: قریب، نزدیک، کمینہ، ذلیل، برا، فرومانہ، سفلہ، حقارت آمیز، قابل یا لائق مذمت، ادنی، رسوا، رسوائے عالم، فاسق، بدکار، ادنی درجے کا، دَنِیَة: جمع دنیات و دنایا: کمینہ عادت یا خصلت، شرمناک بات، بدنامی، برا کام، اَدْنَی: مؤنث دُنیا جمع اَدَانٍ و ادنون مؤنث دُنًی: قریب ترین، گھٹیا، نیچا، زیریں، زیادہ نیچا، ادنی، زیادہ نشیبی، زیادہ چھوٹا، کم اہمیت کا، زیادہ مناسب، بہتر یا زیادہ موزوں زیادہ شایاں۔ الشرق الاَدْنَی: شرق ادنی۔ المعرب الاَدْنَی: الجیریا۔ ادنی من حبل الورید: بہت نزدیک یا قریب، سر پر کھڑا۔ الاقارب الادنون: قریب ترین رشتہ دار۔ من اَدْنَاهُ الی اَقْصَاه: ایک سرے سے دوسرے تک، مکمل طور پر، پوری طرح، سارا سب ملا کر، یکسر، تمام تر، بالکل، الحد الاَدْنَی: کم سے کم۔ اَدْنَاهُ: نیچے، المُوَقِّعُون ادناه: زیر دستخطی، جن کے نیچے دستخط ہیں۔ لا اَدْنَی: کم سے کم نہیں دنیا: (اَدْنَی: کا مؤنث) دنیا، عالم، زمین، یہ دنیا (آخرۃ کے مقابلہ میں) اس دنیا کی زندگی، مادی وجود، دنیاوی، مادی، دنیوی، ...... زمینی چیزیں، پریشانیاں۔ الحیاۃ الدُنیَا: اس دنیا کی زندگی۔ ام الدنیا: قاہرہ۔ اَقَام الدنیا و اقعدها: ہلچل پیدا کرنا، کسی چیز کے حصول کے لئے، ہر ممکن کوشش کرنا، دُنْیَوِی و دُنْیَاوِیّ: دنیاوی، دنیوی، لادینی، غیر مذہبی، زمانی، ناپائیدار، عارضی، وقتی، آنی جانی، گریز پا برق پا۔ دَنَاوَة: نزدیکی، قرب، قرابت، انکسار، عجز و نیاز گراوٹ، پستی، نشیب، رزالت، کمینگی، حرامی پن، پاجی پن، کمینہ پن، بدمعاشی، ذلت، خباثت۔ تَدَنٍّ: غروب ہونا، ڈوبنا، زوال، جھکاؤ، نچلی سطح، پستی کی انتہا، التَدَنّی الاخلاقي: اخلاقی انحطاط دانٍ: نیچا، قریبی، نزدیکی۔ مُتَدَانٍ: باہم قریب۔

دھث: دَهَثَ۔دَهْثًا: ہٗ: کو دفعہ کرنا، ہٹانا۔
دهد: ۱۔ دَهْدَمَ البناء: عمارت کو مسمار کرنا۔ تَدَهْدَمَ: (عمارت کا) مسمار ہو جانا۔
۲۔ دَهْدَهَ و دَهْدَیٰ الحجرَ: پتھر کو لڑھکانا۔ تَدَهْدَهَ و تَدَهْدَی: لڑھک جانا۔ الدُهْدُوه و الدُهْدُوَّة و الدُهْدِیَّة: وہ چیز جس کو سیاہ بھونرا لڑھکاتا ہے۔ الدَهْدَا و الدَهْدَاء (ح): چھوٹے اونٹ۔ کہا جاتا ہے۔ ما اَدْری ایُّ الدَهْدَاء هو: میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔
دهر: ۱۔ دَهَرَ۔دَهْرًا القومَ و بالقوم امرٌ مکروهٌ: لوگوں پر کوئی ناپسندیدہ چیز آپڑنا۔ الدَهْر: جمع اَدْهُر و دُهُور: مصیبت، محدود عرصہ، لمبا زمانہ، (کہا جاتا ہے۔ لا آتیه دهر الداهرین: میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا) غلبہ، عادت (کہا جاتا ہے۔ ماذاك بدهری: یہ میری عادت نہیں) غایت، انتہا، (مادَهْرِی بکذا: یہ میری غایت وانتہا نہیں۔ دهرُ الانسان: وہ زمانہ جس میں انسان زندہ ہے۔ یہ عصر

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے ہم معنی ہے۔ الدُهُرِیّ: بہت بوڑھا۔ الدَهرِیّ: مادہ پرست جو کہتا ہے کہ عالم ازلی وابدی ہے اس کا کوئی خالق نہیں۔ دهرٌ داهِرٌ و دَهِیر: طویل وشدید زمانہ (مبالغہ) الدِهارُ والمُدَاهَرَة: طویل اور غیر معیادی معاملہ کرنا۔ الدَهرِیَّة: عالم کو قدیم ماننے والا فرقہ۔ الدَهَارِیر: پرانے زمانے (اس کا واحد نہیں)، مصائب، مصیبتیں، آفتیں، مصائب زمانہ، کہا جاتا ہے۔ دُهُورٌ دَهَارِیرٌ: لمبے زمانے، کان دلك فی دهر الدهاریر یہ پرانے زمانے میں تھا۔

٢۔ دَهوَرَا لشیء فتدهوَرَ: چیز کو گڑھے میں گرانا، پھینکنا تو اس کا گڑھے میں گر جانا، کہا جاتا ہے۔ دَهوَرَ الکلامَ: بغیر سوچے سمجھے کسی بات میں دوسری بات شامل کر دینا۔ کہا جاتا ہے۔ دَهوَرَ اللقمَ: لقمے منہ منہ میں گھما کر نگلنا۔ تَدَهوَرَ اللیلُ: رات کا گزر جانا۔

○ دَهر: جمع دُهُور و اُدهر: زمانہ، طویل زمانہ، عصر، عہد، دور، مدت، ایک عمر، عمر بھر، دوام، ابد، ابدیت، بڑا لمبا عرصہ، طویل مدت مقدر۔ بَنَاتُ الدهر مقدر کی آفتیں، آزمائشیں، مصائب، رنج، و آلام، تکالیف، بدبختی، بدنصیبی، بدقسمتی۔ تصاریفُ الدهر و صُرُوفُ الدهر: زمانہ کے نشیب وفراز، تغیرات، نصیب کی تبدیلیاں، آفات، مصائب ادبار، نحوست، ناساعد حالات، دهرَ الداهرین: ہمیشہ ہمیشہ کے لئے الی آخِرِ الدهر: ہمیشہ ہمیشہ کیلئے۔ الدهرَ کُلَّهُ: زندگی بھر کبھی نہیں۔ دَهرِیّ: مادہ پرست و ملحدانہ عقیدہ کا پیروکار، ملحد، کافر، دہریہ، آزاد خیال، لامذہب۔ دُهرِی: بہت بوڑھا، ازحد عمر رسیدہ۔

دهس: ١۔ دَهِسَ ۔ دَهَسًا المکانُ: جگہ کا نرم ہونا، صفت: اَدهَس مونث دَهسَاء: جمع دُهس۔ اَدهَسَ القومُ: نرم زمین پر چلنا۔ الدهس والدَهَاس: جمع اَدهَاس: نرم جگہ۔ دَهَاسَةُ الخُلُقِ: طبیعت کی نرمی، نرم مزاجی۔

٢۔ دَهَسَ ۔ دَهسًا: سختی سے نیچے لے لینا۔ کہا جاتا ہے۔ دهستهُ السیارةُ: وہ کار کے نیچے آ گیا۔ مَدهُوس: گاڑی کے نیچے آ جانے والا۔ الدَهَس: نباتات جن پر سبز رنگ کا غلبہ نہ ہوا ہو۔ وہ زمین جس پر اچھی طرح طرح روئیدگی ظاہر نہ ہوئی۔ الأدهَس: سرخی مائل سیاہ۔ الدُهسَة: سرخی مائل سیاہی۔

○ دَهَسَ ۔ دَهسًا: (بمعنی دَاسَ) ہ: کو پاؤں تلے روندنا، کچلنا۔ ـــ ہ: پر چلنا، قدم رکھنا، ـــ ہ: کو نیچے لے لینا۔

دهش: دَهِشَ ۔ دَهَشًا و دُهِشَ: حیران ہونا، صفت۔ دَهِش و مَدهُوش و دَهشان۔ دَهَّشَ و اَدهَشَ ہُ: کو حیران کرنا، مدہوش کرنا۔

○ دَهِشَ ۔ دَهَشًا و دُهِشَ من ⁄ ل: پر ششدر ہونا، حیران ہونا، متحیر ہونا، سے یا پر بھونچکا رہ جانا۔ ـــ من: سے حیرت زدہ ہو جانا، پر بڑا تعجب کرنا، سخت حیران ہونا۔ ـــ من ⁄ ل: سے چکرا جانا، حیران و پریشان ہو جانا، پر چونکنا گھبرانا، حواس باختہ ہونا، سے الجھن میں پڑ جانا، بھونچکا و ششدر ہو جانا۔ دَهَّشَ وَ اَدهَشَ ہ: کو ششدر کرنا، اچنبھے میں ڈالنا، متحیر کرنا، حیران کر دینا، بھونچکا کر دینا، کو چکرا دینا، حیران و پریشان کرنا، کو الجھن میں ڈالنا، حیرت میں ڈالنا، کو اور الجھا دینا، کو چونکا دینا، گھبرا دینا، حواس باختہ کر دینا، اِنُدَهَشَ بمعنی دَهِشَ۔ دَهَش: حیرانی، حیرت، اچانک یا بے خبری میں جا لینا، سراسیمگی یاس، خوف، استعجاب، ہول، دہشت، کھٹکا، دَهِش: ششدر، متحیر، حیران، بھونچکا، پریشان، چکرایا ہوا، الجھن میں ڈالا ہوا، دم بخود، حواس باختہ، گھرایا ہوا، چونکا ہوا، اطمیناں و سکوں میں خلل ڈالا ہوا۔ چوکس، گھبرایا ہوا، دہشت زدہ، درہم برہم، پریشان، برہم بدحواس، ہوش اڑا ہوا۔ دَهشَة: اچنبھا، سخت تعجب، استعجاب، خلاف توقع بات، حیرت، حیرانی، تعجب، سراسیمگی، خوف، مایوسی، حزن، پریشانی، دہشت، ہول، ڈر۔ اِندِهَاش: بمعنی دَهشة مُدهِش: حیرت انگیز، حیران کن، عجب، معجزنما، خوب، مزے کی بات (جمع مدهشات:) حیرت انگیز چیزیں، عجائب وغرائب عجوبے، معجزات۔ مَدهُوش و مُندَهِش: بمعنی دَهِش: نیز گھرا ہوا۔

دهق: ١۔ دَهَقَ ۔ دَهقًا الکاسَ: پیالہ بھرنا۔ اَدهَقَ الکاسَ: پیالہ بھرنا۔ الدهاق من الکُؤوس: بھرا ہوا پیالہ۔ کہا جاتا ہے۔ کاسٌ دِهَاقٌ: لبالب پیالہ۔ ماءٌ دِهَاقٌ: بہت پانی۔

٢۔ دَهَقَ ۔ دَهقًا الماءَ: پانی کو شدت سے خالی کرنا۔ اَدهَقَ ہُ: سے جلدی کرانا۔

٣۔ دَهَقَ ۔ دَهقًا الشیءَ: کو توڑنا کاٹنا۔

٤۔ دَهَقَ ۔ دَهقًا ہُ: کو مارنا پیٹنا۔

٥۔ اِدَّهَقَتِ الحجارةُ: پتھروں کا آپس میں سختی سے پیوست ہونا۔ الدَهَق: شکنجہ جس میں مجرموں کی پنڈلیاں بھینچی جاتی ہیں۔

٦۔ دَهقَنَ القومُ فلانًا: قوم کا کسی کو سربراہ بنانا، چودھری بنانا، تَدَهقَنَ: سربراہ یا چوہدری ہونا۔ الدُهقان والدِهقَان: جمع دهاقنة: (فارسی لفظ) چودھری، ذیلدار، نمبردار، تاجر۔ الدَهقَنَة: چودھراہٹ، سربراہی۔

○ دَهَق: شکنجہ جس میں مجرموں کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیتے ہیں۔ دِهَاق: بھرا ہوا (پیالہ) لبالب (بھرا ہوا) دِهقَان: جمع دَهَاقِنَة و دَهَاقِین: اہم شخص، اہم کردار ادا کرنے والا، اہم ترین شخصیت، بڑی شخصیت (قدیم ایران میں) دَهاقِینُ السیاسة: سیاسی لیڈر (جمع)

دهك: دَهَكَ ۔ دَهکًا الشیءَ: کو پیسنا، توڑنا، ـــ الارضَ: زمین کو روندنا۔

○ دَهَكَ ۔ دَهکًا: کچلنا۔ ـــ ہ: کو ابال کر کچلنا۔

دهل: ١۔ الدِهلِیز جمع دَهَالِیز: ڈیوڑھی، لمبا تنگ راستہ۔ ابناءُ الدَهالیز: گرے پڑے لاوارث بچے۔

○ الدَهلِیة (ن): بڑے پھولوں والا ایک پودا۔

○ تَدَهلَزَ: (بڑے کمرے میں) ٹہلنا، چہل قدمی کرنا۔

○ دِهلِیز: جمع دَهَالِیز: ڈیوڑھی، پیش والان، گرجے کی برساتی، مجلس قانون کا وہ کمرہ جہاں عوام بھی جا سکتے ہوں لابی، داخلہ کا بڑا کمرہ غلام گردش۔ بڑا کمرہ، ہال۔ ابن الدِهلِیز: جمع ابناء الدهالیز: گراپڑا بچہ، بن ماں باپ کا۔

○ دِهلی: دہلی: بھارت کا دارالحکومت۔

دهم: ١۔ دَهَمَ ۔ و دَهِمَ ۔ دَهمًا ہ الامرُ: پر کوئی معاملہ اچانک آ گرنا۔ دَهَّمَتِ النارُ القدرَ: آگ کا ہانڈی کو سیاہ کرنا۔ اِدهَمَّ و اِدهَامَّ اِدهِیمامًا الفرسُ: گھوڑے کا سیاہ ہونا۔ الدُهم: ماہ قمری کی آخری تین راتیں۔ الدَهم: جمع دُهُوم: بڑی تعداد۔ الدُهَیم والدُهَیمَاء وامُّ الدُهَیم: مصیبت۔ الأدهم: مونث دَهمَاء جمع دُهم: سیاہ۔: جمع اداهِم: بیڑی۔ الدُهمَة: سیاہی۔ الدَهمَاء، الأدهَم کا مونث: ہانڈی، قمری ماہ کی انتیسویں رات (ن): ایک قسم کی گھاس جس سے چٹائیاں بنتی ہیں۔ لوگوں کی جماعت۔ حدیقة دَهمَاء و مُدهامَّة: سیاہی مائل سرسبزی والا باغ۔

٢۔ اَدهَمَ ہُ: کو غمگین کرنا۔

٣۔ الدُهم: مخلوق۔ کہا جاتا ہے۔ اَیُّ الدُهمِ هو: وہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے؟۔ الدُهَیم: احمق۔ الأدهَم مونث دَهمَاء جمع دُهم: قدیم آثار جدید آثار۔

٤۔ دَهمَجَ الشیخُ: بوڑھے کا بیڑی پہنے شخص کی طرح آہستہ چلنا۔ ـــ الخبرَ: خبر میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا۔ الدَهمَج والدُهَامِج: ہر بڑے جسم والی شے، دو کوہانوں والا اونٹ۔

○ دَهَمَ ۔ دَهمًا و دَهِمَ ۔ دَهمًا ہ: پر آ پڑنا، ٹوٹ پڑنا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اچانک حملہ کرنا، کو اچانک جالینا، بے خبری میں جالینا، آلینا، کے پاس غیر متوقع طور پر آنا۔ ـــہ: میں اچانک داخل ہونا، پر چڑھائی کرنا، حملہ آور ہونا، حملہ کرنا۔ دَهَّمَ ہ: کو کالا کرنا، سیاہ کرنا۔ دَاهَمَ ہ: پر نازل ہونا، گرنا، پڑنا، حملہ کرنا، کو مضبوطی سے پکڑنا، قبضہ میں کرلینا، (بیماری، یاس وغیرہ کا) کسی پر اثر انداز ہونا۔ کو اچانک آلینا، بے خبری میں جالینا، کو جرم کرتے ہوئے پکڑنا، پر اچانک حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا، ـــہ: پر چڑھائی کرنا، حملہ آور ہونا، حملہ کرنا، ـــہ: کو اچانک آلینا، پکڑنا، اِدَّهَمَ: سیاہ ہونا۔ دُهْمَة: سیاہی۔ اَدْهَم مونث دَهْماء جمع دُهْم: سیاہ، گہرا سیاہ۔ داهية دهماء: مصیبت، شامت، آفت، عظیم تباہی۔ الدَهْماء: عوام، عام لوگ۔ عوام الناس۔ مُدَاهَمَة: پولیس کا دھاوا یا چھاپا، گھر کی تلاشی۔ مُدْهَمّ: بہت سیاہ، بہت تاریک، گہرا اندھیرا۔

دهن: ا۔ دَهَنَ ـ دَهْنًا و دَهْنَةً الرأسَ: سر میں تیل یا خوشبو لگانا۔ ـ الشيءَ: کو تر کرنا، تیل لگانا۔ دَهَّنَ الشيءَ: کو تیل لگانا، تر کرنا۔ تَدَهَّنَ و اِدَّهَنَ: تیل سے چکنا ہونا۔ الدُهْن: جمع اَدْهان و دِهان: دَهَنَ کا اسم (تر کرنا) دُهْنُ الشيء: کسی چیز کا تیل۔ ـ النخيل (ك): کھجور کے درختوں سے نکالا جانے والا تیل (استوائی افریقہ، سینگال اور غینا میں)۔ الدَهْن (مص): اتنی بارش جس سے زمین تر ہو جائے۔ الدُهْنَة: تھوڑا سا تیل۔ کہا جاتا ہے۔ هو طيّبُ الدُهْنَة: وہ عمدہ خوشبو والا ہے۔ الدِهَان: وارنش، پینٹ، ادھوڑی، پھسلنے کی جگہ۔ الدَهِين: تیل لگایا ہوا۔ المُدْهُن: جمع مَدَاهِن: تیل لگانے کا آلہ، وارنش کرنے کا برش، تیل کی شیشی۔ الدَهَّان: تیل لگانے والا، تیل بیچنے والا، تیلی۔ الدَهَّناء (ن): سرخ گھاس جس کے پتوں سے چمڑا رنگا جاتا ہے۔ الِدهانة بمعنی الدَهْن: تیل رنگ کرنے کی صنعت۔

۲۔ دَهَنَ ـ دَهْنًا و دَاهَنَ مُدَاهَنَةً و اَدْهَنَ هُ: کو دھوکا دینا، فریب دینا، سے منافقت کرنا۔

۳۔ دَهَنَ ـ دِهانًا و دَهَانَةً ت الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ الدَهِين: کمزور۔ ناقةٌ دهين: کم دودھ والی اونٹنی۔

۴۔ اَدْهَنَ عليه: پر باقی رکھنا۔ کہا جاتا ہے۔ ما ادهنت الا على نفسك: اپنے سوا تو نے کسی پر کچھ باقی نہیں رکھا۔

۵۔ الدَهْناء: بیابان، ریگستان۔

☜ دَهَنَ ـ دَهْنًا ہ / ہ ب: کو سے تیل دینا، پر سے مالش کرنا، ملنا، گریس لگانا، دھبے ڈالنا، رگڑنا، پر سے انضمام کرنا، طلا کرنا، لیپ کرنا، ـــہ: پر روغن کرنا، کو لیپنا، پوتنا، استر کاری کرنا، پر داغ دھبے ڈالنا، پر وارنش کرنا۔ دَهَّنَ: بمعنی دَهَنَ۔ دَاهَنَ ہ: سے شرافت کے ساتھ پیش آنا۔ سے چاپلوسی سے کام نکالنا، کی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، کو دھوکا دینا، جل دینا، ٹھگ لینا، فریب دینا، سے زیادہ چالاک ہونے کے وجہ سے فائدہ اٹھانا۔ تَدَهَّنَ۔ دَهَنَ: کا صیغہ مجہول یعنی مثلاً تیل دیا جانا، مالش کیا جانا، ملا جانا، وغیرہ۔

دَهْن: تیل دینا، گریس لگانا، روغن کرنا، لیپنا، پوتنا، استر کاری کرنا، داغ دھبے ڈالنا۔

دُهْن. جمع اَدهان و دُهُون و دِهان: تیل (خوردنی، مشین کا، جلد کا) گریس، چربی، روغن۔ دُهْنِي: تیل کا، تیل کا سا، روغنی، چکنا، تیل لگا، چربی دار چربیلا۔ دُهْنِيات: تیل، چربیاں چربی دار، چربیلی یا چکنی اشیاء۔ دَهْناء: ریگستان، بیابان۔ دَهَّان: گھروں میں رنگ کرنے والا، رنگ ساز۔ دَهِينَة: پوماد، بالوں میں لگانے کی خوشبو۔ دِهَان جمع دهانات و اَدْهِنَة: حسن افزا کریم، کولڈ کریم، مرہم، متبرک تیل، مرہم والا تیل، رنگ، روغن، غازہ وارنش، منافقت، زمانہ سازی، مکاری، ریاکاری، دھوکا۔ دهان: (بلا جمع): روغن کرنا، رنگ، کرنا، لیپنا، پوتنا، استر کاری کرنا، سفیدی کرنا۔ وَرْشَةُ الدهان: رنگ روغن پینٹ وغیرہ کی دوکان۔ مُدَاهَنَة: چاپلوسی، تملق خوشامد، منافقت، زمانہ سازی، مکاری، ریاکاری، دھوکا، فریب۔ مُداهِن: چاپلوس، متملق، خوشامد کرنے والا، منافق، ریاکار، زمانہ ساز۔ مُدْهِن: چکنا، چرب، تیلیا، روغنی، تیل میں تر، روغن دار، چربی دار، چربیلا، چکنا۔

☜ دَهْوَرَ ہ: کو نیچے پھینکنا، لڑھکانا، ڈگمگا کر گرانا، کا خاتمہ کرنا، کو ختم کرنا۔ تَدَهْوَرَ: گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، لڑھکنا، گر پڑنا، کھٹ سے گرنا، بیٹھنا، نیچے گھسنا، سب سے نچلی سطح پر بیٹھ جانا۔ تَدَهْوُر: زوال، سقوط، خاتمہ، انحطاط، سرد بازاری، کساد بازاری۔

دهی: ا۔ دَهَى ـ دَهْيًا و دَهَّى فلانًا: کو چالاکی کی طرف منسوب کرنا۔ دَهِيَ ـ دَهْيًا و دَهَاءَةً و دَهَاءً: چالاک اور ہوشیار ہونا۔ صفت: دَاهٍ جمع دُهَاة و دَهٍ جمع دَهُون و داهِيَة جمع دَوَاهٍ: "ة" آخری لفظ میں مبالغہ کیلئے ہے۔ آپ کہتے ہیں: رجل داهِيَة وامرأة داهية: بہت چالاک مرد، بہت چالاک عورت۔ تَدَهّی: [illegible] چالاکی کرنا، چالاک بننا، ہوشیار بننا۔ الدَهِيّ: جمع اَدْهِياء و دُهَوَاء: عقلمند، دانا، دور اندیش۔ الدَهَاء: زیرکی، ہوشیاری، مہارت۔

۲۔ دَهَى ـ دَهْيًا و دَهَّى فلانًا: پر عیب لگانا، کا مرتبہ گھٹانا۔ الدَهَاء: مکر، حیلہ۔

۳۔ دَهَى ـ دَهْيًا و دَهَّى فلانًا: کو مصیبت پہنچانا۔ دَاهَى مُداهاةً و دِهاءً القومَ: لوگوں پر مصیبت ڈالنا۔ الداهِيَة: جمع دَوَاهٍ: مصیبت، بڑا کام، ناپسندیدہ کام۔ داهيةٌ دَهْياء: سخت مصیبت۔ دَوَاهي الدهر: حوادث زمانہ۔

☜ دَهِيَ ـ دَهَاءً: ہوشیار ہونا، چست و چالاک ہونا، تیز فہم ہونا، ذہین ہونا، فریبی ہونا، مکار ہونا، چلتا پرزہ ہونا، چالاک و عیار ہونا، حیلہ باز ہونا۔ دَهَى ـ دَهْيًا ہ: پر مصیبت کا آپڑنا، پر ناگہانی آفت آنا، کو مصیبت پڑنا، مصیبت کا متاثر کرنا۔ دَهَّى: بمعنی دَهَى۔ تَدَاهَى: ہوشیار بننا، چالاک و عیار بننا۔ دَهَاء: پھرتی، تیز فہمی، ہوشیاری، چالاکی، عیاری، مکاری، کائیاں پن، حیلہ سازی، فراست، حکمت، استادی، کاریگری، ہنرمندی، اَدْهَى: زیادہ ہوشیار و چالاک، زیادہ عیار، زیادہ سیانا، زیادہ گھاگ، زیادہ ذہین، زیادہ استاد، زیادہ کاریگر، زیادہ ہنرمند، زیادہ حیلہ باز، زیادہ آزمودہ۔ زیادہ استادی والا، زیادہ باریک بین، زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا، زیادہ خوش تدبیر، زیادہ آفت کا مارا، زیادہ مصیبت زدہ، داهٍ: جمع دُهَاة: زیادہ چست و چالاک، تیز فہم، عیار، چالاک، پہنچا ہوا، کائیاں، استاد، نٹ کھٹ، سیانا، گھاگ، ذہین، ہوشیار، صائب الرای، باریک بین، ہوشیار، فریبی، مکار، حیلہ باز، چلتا پرزہ، سوجھ بوجھ رکھنے والا، خوش تدبیر شخص۔ اهِيَة: چست و چالاک، تیز فہم، تیز طبع، ذہین، ہمہ دان، پرانا چلتا پرزہ شخص، عیار، مکار شخص۔ دَاهِيَة: جمع دَوَاهٍ: مصیبت، آفت۔ فَلْيَذْهبُ في داهية: وہ جائے جہنم میں۔

دوّ الدَوّ: دیکھو دوی

داء: دَاءَ ـ دَاءً و دَوْءً ا: بیمار ہونا صفت: دَاءٍ۔ اَدْوَأَ اِدْوَاءً و اِدَاءً و اِدَاءَةً: بیمار ہونا۔ ـــہ: کو بیمار کرنا، بنانا۔ صفت مُدِیْءُ الدَاء جمع اَدْوَاء: بیماری۔ به داءُ الظبي: اس کو کوئی بیماری نہیں جیسا کہ ہرن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ فلانٌ ميّتُ الداء: فلاں شخص کو اگر ایذا پہنچائی جائے تو وہ پھر بھی ایذا پہنچانے والے سے کینہ نہیں رکھتا۔ داءُ الثعلب: (طب): وہ بیماری جس سے سر کے بال گر جاتے ہیں۔ اس کو الحاصّة

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کہتے ہیں۔ داء الحد وہ بیماری جس میں کھال گرنے
لگے۔ داء الفیل (طب): فیل پا کی بیماری۔ داء
الذئب بھوک۔ الدَّئِی بیمار۔
ج داء جمع اَدْوَاء بیماری، روگ، علت، عارضہ نقص
طبع۔فسادفکر۔ داءُ الرقص سینٹ ویٹوس (Vitus)
کا رقص۔ داءُ المِنطقة روڑے، ایک جلدی مرض
جس سے کمر کے قریب چھتے پڑ جاتے ہیں اور سوزش
ہوتی ہے۔
دواء دیکھو دوی۔
ج دَوَب ہ کو بتدریج دور کرنا، کو پتلا، کمزور یا ناکارہ
کرنا۔
ج دَوْبارة دھاگا، رسی، سلی، ڈوری، پیکٹ یا گڈی باندھنے
کی رسی، فیتہ۔تانت۔تر۔بان، ریشہ طناب۔پٹھا۔
ج دَوْبَیت مقفی شعر جو چار نصف مصرعوں پر مشتمل ہوتا
ہے۔
داج داج دَوْجًا خدمت کرنا۔ الداجة فوج کے پیرو،
چھوٹی چھوٹی ضرورتیں۔کہا جاتا ہے۔ ماترکت حاجة
و لاداجة میں نے چھوٹی بڑی کوئی حاجت نہیں
چھوڑی۔ الدوج جمہوریہ وینس کے سربراہ کا لقب
تھا۔اس کا معنی فوجی کمانڈر یا جنرل ہے۔
داح داح دَوْحًا البطنُ پیٹ کا پھول کر لٹک جانا۔
۔ت الشجرة درخت کا بڑا ہونا۔صفت: دائحة
جمع دوائح۔ دَوَّحَ البطنُ پیٹ کا پھول کر لٹک
جانا۔ ۔۔ المالَ مال کو جدا کرنا۔ تدوَّحَ البطنُ
پیٹ کا پھول کر لٹک جانا۔ اِنْداحَ البطنُ پیٹ کا
پھول کر لٹک جانا۔ ۔۔ الشیءُ پھیلنا، چوڑا ہونا۔
الدَّوح بڑا وسیع گھر۔ الدَّوْحة جمع دَوْح و
جمع الجمع اَدْوَاح: بڑا پھیلا ہوا درخت، بڑا
سائبان۔ الدُّوَاح بہت بلند اور بڑا۔
۲۔ الداح ریشم کا بنا ہوا کنگن، تصویر جسے لہرا کر بچوں کا دل
بہلایا جاتا ہے۔ الداحة: دنیا۔
○ انداح پھیلنا۔ دَوْح: شاخیں، شاخ در شاخ درخت
(جمع) دَوْحة: اونچا درخت کئی شاخوں والا، شجرہ
نسب، نقشہ یا جدول۔ داحة: لٹو، (بچوں کے کھیلنے
کا)۔
داخ: داخَ ـ دَوْخًا: ذلیل ہونا، عاجزی و فروتنی کرنا۔
۔البلادَ ملک پر غالب ہونا اور اس پر قبضہ کرنا، اقتدار
جمانا، ۔الرجل: کو چکر آنا (عام زبان میں)۔ دَوَّخَ
الرجل کو ذلیل وعاجز کرنا۔ ۔۔ الوجع رأسهُ
درد سر کا سر کو چکر دینا۔ ۔۔ و دَیَّخَ البلادَ: ملک پر
غالب آ کر اس پر قبضہ کرنا۔ ملک میں گھوم پھر کر اس
سے واقف ہونا اور راستوں کا پتہ چلانا۔ اداخَ
داخَةً کو ذلیل کرنا۔ الدَّوخة چکر، دوران سر۔
اس کے لئے فصیح لفظ دُوار اور هُدَام ہیں۔ لیل دائخ
تاریک رات۔
ج داخ ـ دَوْخاه ملک کو فتح کرنا اور زیر نگیں کرنا۔ ۔۔
فروتنی کرنا، عاجزی کرنا، سرگراں ہونا، کا سر چکرانا، بیمار
ہونا، متلی محسوس کرنا۔ دوَّخ ہ لوگوں کو فتح کرنا،
زیر نگیں کرنا۔ ۔۔ہ کو فرمانبردار بنانا، زیر کرنا، مغلوب
کرنا، قابو میں کرنا، ذلیل کرنا، نیچا دکھانا نگاہوں سے
گرانا، کو سرگراں بنانا، کو جان بوجھ کر چھیڑنا، کا ناک
میں دم کرنا، کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، کو ذہنی صدمہ
پہنچانا، کے ہوش اڑا دینا، کو بدحواس کرنا، گھبرا دینا۔
دوّح رأسهُ کا سر چکرا دینا، کو سرگراں کردینا۔ دَوْخة:
چکر، سرگرانی، دوران سر، بے ہوشی، متلی، مالش، دائخ
سرگران، تَدْویخ زیر نگین، تسلط قائم کرنا فتح۔
داد ا۔ دادَ ـ دَوْدًا و دَوَّدَ و دِیْدَ و اَدادَ اِدادَةً الطعامُ
کھانے میں کیڑے پڑنا۔ صفت: مَدُود۔ الدُّودَة
جمع دُوْد و دِیدان کیڑا۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔
دُودَة القزّ: ریشم کا کیڑا۔ الدُّواد (ح): چھوٹے کیڑے
الدُّوَید دُوْد کی تصغیر، چھوٹا کیڑا۔
۲۔ الدُّواد تیز رفتار آدمی۔ الدِّیْداء تیز دوڑ۔
الدُّوْداة: جو دَوَادِی: جھولا، ہنڈولہ۔
۳۔ الدُّوَادار و الدُّوَیْدار منشی، کاتب (فارسی لفظ)
○ دَوَّدَ کیڑے کا کھایا ہوا ہونا یا ہوجانا۔ دُوْد: واحد
دُوْدَة: جمع دِیدان کیڑا، پہلا روپ (کیڑ، لاروا،
تتلی، یا پتنگے کا) پہلا روپ، ۔دُوْدَةُ الحریر / دُوْدَةُ
القزّ: ریشم کا کیڑا۔ دود القَرْع و دود قَرْعِی:
آنتوں کے کیڑے ascarids دودُ القِرْمِز:
میکسیکو کے وہ خشک کیڑے جن سے قرمزی رنگ بنایا
جاتا ہے، قرمز دودُ الوشّ: پنیر کے کیڑے، الدودة
الوحیدة: فیتے کی طرح لمبا کرم جو معدے میں پیدا
ہوجاتا ہے۔ دُوْدِی: کیڑے جیسا، کیڑے کی شکل کا،
مَدُوْد و مُدَوِّد: کرم خوردہ، گھن لگا۔
○ مِدْوَد: بمعنی مِزْوَد: جمع مزاوِد: تھیلا (کھانے
پینے کے سامان کا) کینوس کی خرجی۔
دار ا۔ دارَ ـ دَوْرًا و دَوَرانًا: گھومنا، چکر کھانا، ۔۔۔
بالشیء و علیه و حولهٗ: کے گرد گھومنا۔ ۔الدهرُ:
زمانہ کا پلٹا کھانا، بدلنا۔ دِیْرَ بِهٖ: کا سر چکرانا، کو دوران
سر لاحق ہونا۔ دَوَّرَهٗ و بـه: کو گھمانا، چکر دینا۔ داوَرَ
مُداوَرَةً و دِوَارًا الشیءَ: کے ساتھ پھرنا۔گھومنا۔
اَدارَ اِدارَةً الشیءَ: گھومنا۔ ۔۔ہٗ و بہ: کو گھمانا،
چکر دینا، ۔ ۔ہُ عن حقه سے اپنے حق کو چھوڑ دینے
کی خواہش کرنا۔ اُدِیْرَ بـه کا سر چکرانا، کو دوران سر
لاحق ہونا۔ اِستَدارَ اِستِدارةً چکر لگانا، گھومنا۔ ۔۔
الشیء و به: کو چکر دینا۔ کہا جاتا ہے۔ استدار
بما فی قلبی: اس نے میری دل کی بات کا پتہ لگا لیا۔
الدار سال، زمانہ۔ الدَّوْر (مص) جمع اَدْوار
حرکت، گردش، چکر، دفعہ، (مو) دو یا دو سے زائد
شعروں کا قطعہ۔ علم الأدوار علم موسیقی۔ فن
موسیقی۔ الدَّوْرَة: دار کا اسم مرۃ۔ الدُّوَار و
الدَّوَار (طب) سر کا چکرانا۔ عام لوگ اس کو دوخة
کہتے ہیں۔ الدَّوَّار و الدَّوّاری بہت گھومنے پھرنے
والا۔ کہا جاتا ہے۔ الدهر دَوَّارٌ و دَوَّارِیٌّ بالانسان
زمانہ انسان کے ساتھ الٹنے پلٹنے والا ہے۔ دَوَّارُ
الشمس (ن) سورج مکھی۔ مَدارُ الشیء جس
پر کوئی چیز چکر کھائے۔ ۔الأمر کا دارومدار۔ الدائرة
جمع دوائر مصیبت میں کہتے ہیں۔ دارت
علیهم الدوائر: ان پر زمانہ کی مصیبتیں اور
آفتیں ٹوٹ پڑیں۔ الدَّوَران (مص) چکر (کسی
چیز کے گرد۔ کسی محور کے گرد نقطہ کا چکر۔ الدَّوْرِیَّة
چوکیدار وغیرہ کا گشت۔
۲۔ دَوَّرَهٗ کو گول بنانا۔ اَدارَ اِدارَةَ الامرَ: کا احاطہ کرنا۔
تَدَوَّرَ: گول ہونا۔ اِستَدارَ استدارةَ الشیءُ
گول ہونا۔ الدَّارَة: جمع دارات و دُوْر: دائرہ،
حلقہ، چاند کا ہالہ، پہاڑوں کے درمیان کی وسیع زمین۔
۔۔ و الدِّیْرَة و التَّدْوِرة من الرمل: گول ریتلی
جگہ۔ مَدارُ کوکب (فلک): ستارے کا مدار۔ الدائرة
جمع دَوائر حلقہ، جو کسی شے کو گھیرے ہوئے ہو،
انسان کی پیشانی کے پاس بالوں کی بھنوری، گھوڑے
کے بدن پر بالوں کی بھنوری۔ (مو) بربط کا محیط۔ دائرہ
سطح جس کو ایک خط گھیرے ہو اس خط کو محیط الدائرة
کہتے ہیں۔ اس کے غیر متحرک نقطہ سے جسے مرکز
الدائرہ کہا جاتا ہے۔ تمام نقاط یکساں فاصلہ پر ہوتے
ہیں۔ قطر الدائرة: وہ خط مستقیم جو دائرہ کو دو برابر
کے حصوں میں تقسیم کردے اور مرکز دائرہ پر گذرتا ہوا
جائے۔ المُدارة: ڈول کی ایک قسم۔ الدُّوَّارة من
الرأس: سر کا گول حصہ۔ دُوَّارة البطن: بکری کا
اوجھ، الدَّوَّارة: پرکار۔ ۔۔ من الارض: زمین کا
ایک چھوٹا قطعہ جس کی لمبائی چوڑائی کے قریب قریب
ہو۔ ۔ من الرأس: سر کا گول حصہ۔
۳۔ داوَرَ مُداوَرَةً و دِوارًا علی الامر: کسی کام کو انجام
دینا۔ ۔۔ الامورَ: کاموں کو انجام دینے کیلئے غور وفکر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا۔ اَدَارَ اِدَارَۃً الشيءَ: کو لینا ــہٗ علیہ: کو پر لازم کرنے کا ارادہ کرنا۔ الاِدَارَة: ادار کا اسم و مصدر۔ المُدِیر: گورنر، منیجر، منتظم۔ الدارِیُ: ملاح جو پتوار کا نگہبان ہو۔

۴۔ تَدَیَّرَ البقعةَ: کسی قطعۂ زمین پر گھر بنانا۔ الدار (مونث کبھی مذکر بھی مستعمل ہے) جمع دُوْر و دِیار واَدْؤُر و اَدْوُر و اَدْوِرَة و دِیارَة واَدْوَار و دُوْرَات ودِیارَات و دُوْرَان و دِیْران: گھر، مکان، شہر، قبیلہ، کہا جاتا ہے۔ مَرَّتْ بنا دارُ بني فلانٍ: فلاں قبیلہ ہمارے پاس سے گزرا۔ ۔ عند الفقهاء: خالی جگہ جو گھروں اور کھلے صحن پر مشتمل ہو۔ دارُ الحرب: دشمن کا ملک۔ دارُ القرار: آخرت۔ الداران: دنیا و آخرت۔ الدیر: جمع اَدْیِرَة و دُنُوْرَة و اَدْیَار: عابدوں کی رہائش گاہ، خانقاہ۔ الدارة: جمع دارات و دُوْر: محل یعنی رہنے کی جگہ۔ قبیلہ۔ دارَاتُ العرب: عرب کے مشہور مقامات جو ایک سو دس سے زائد ہیں۔ الدارِیّ: چوپایوں اور مویشیوں کا مالک، عطر فروش، کہا جاتا ہے۔ ما في المكان دارِيٌّ او دُوْرِيّ او دَیَّارٌ او دَیُّوْرٌ: گھر میں کوئی نہیں ہے۔ الدُوْرِيّ (ح): چڑیا۔ الدارِيَّة: گھر میں پڑا رہنے والا۔ تاء مبالغہ کی ہے۔ الدَیْرَانِيُّ والدَیَّار: دیروالا، خانقاہ والا (مالک یا ساکن)

ن دارَ دَوْرًا دَوَرَانًا ب/علي/حول: کسی چیز یا شخص کے گرد چکر کھانا، گھومنا، گردش کرنا، باری باری آنا، چکر میں حرکت کرنا، پھرنا، چکر کاٹ کے آنا۔ ــــ گردش کرنا، شروع کرنا، پھرنا شروع کرنا، گردش کرنا، پھیلنا، مشہور ہونا، رائج ہونا، افواہوں وغیرہ کا گردش کرنا، (مشین یا انجن کا) دوڑنا، چلنا، رواں ہونا (انجن کا) دوڑنے لگنا، گھومنا، پھرنا، ــــ علی لوگوں میں چکر لگانا۔ مسلسل کئی لوگوں کے پاس جانا۔ ــــ مڑنا، چہرہ موڑنا، رخ بدلنا، مختلف ہو جانا، مختلف موڑ مڑنا۔ ۔ علی: کا مخالف ہو جانا۔ علی/حول: سے متعلق ہونا، پر ہونا، سے علاقہ رکھنا سے تعلق رکھنا، سے واسطہ ہونا، کے لئے اہم ہونا، ــــ ہونا جاری ہونا، ہو رہا ہونا، چل رہا ہونا، ــــ بین: کے مابین زیر بحث ہونا، مذاکرات ہونا، بات چیت ہونا، ــــ ب: کو پھیلانا، مشہور کرنا کسی کی راہنمائی کرنا، لے جانا، دار بعینیه و بنظره في: اپنی نگاہیں پر پھیرنا۔ دُرْ: اُلٹا پھر (فوجی حکم) دار رأسُهٗ: کا سر چکرانا، دارَ مَعَ الفرَص: بادبان ٹھیک لگانا، اپنے آپ کو صورت حال کے مطابق بدلنا۔ دارت رحَى الحرب: جنگ شروع ہو گئی۔ المعارك التي دارت رحَاها أمس: کل جو معرکے بہت زوروں کے ہوئے۔ دار بنفسه: اس کے دل میں آیا۔ دارَ علی الألسُن: بہت بحث ہونا، ہر ایک کی زبان پر ہونا۔ دارَ علی الافواه و اسلات الاقلام: بولی اور لکھی جانے والی دونوں زبانوں میں رائج ہونا، عام استعمال میں ہونا، عموماً مسلمہ (الفاظ وغیرہ) ہونا۔ دارَ بلادًا و اَکَلَ اعیادًا: وہ دنیا میں گھوما پھرا اور بہت کچھ دیکھا۔ دارَ بالهٗ اِلی/علی: کی طرف توجہ مبذول کرنا، کے بارے میں محتاط ہونا۔ دارَتْ علیهم الدائرہ: مصیبت نے اچانک ان کو آلیا۔ دَوَّرَ ہ/ب: کو چکر دینا، گھمانا، تیز گھمانا، گردش دینا، باری باری لانا، کو موڑنا، الٹا کرنا، اوندھا کرنا، ــــ ہ: کو گول بنانا یا کرنا، پھیلانا، کو چالو کرنا، چلانا، متحرک کرنا، (گھڑی، گھنٹے) کو چابی دینا۔ ۔ علی: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کی تلاش کرنا، کی تلاشی لینا۔ دوَّرَ راْسهٗ: کا سر موڑنا، کو قائل کرنا، منوانا، ہوش میں لانا۔ داوَرَہ: کے ساتھ جانا، سیر کرنا، کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنا، خوش آمد در آمد سے کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا یا مجبور کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا۔ ــہ عن/علی: بے ایمانی سے کسی سے کچھ حاصل کرنا، ــــ: فرار ہونا، بچنا، ادھر اُدھر ہٹنا، سزا سے بچ نکلنا۔ اَدَارَہٗ: کو موڑنا، چکر دینا، گھمانا، گردش دینا، باری باری لانا۔ ہ/ب: کو موڑنا، ــرأسهٗ الی: اپنا سر کی طرف موڑنا۔ ہ الی/علی: کا رخ کی طرف کرنا۔ پھیرنا، ــہ: کو پھیلانا (مشین وغیرہ) کو چالو کرنا، چلانا، ۔ المُحَرِّكَ: (موٹر انجن) سٹارٹ کرنا، ۔ شرائطَ ناطقة: ٹیپیں چلانا، ــہ: پر عمل کرنا، کوئی چیز چلانا، ڈرائیو کرنا، (منصوبہ، کام) جاری کرنا، ــــ ہ: کی طرف توجہ دینا، کو شروع کرنا، ــہ/ہ عن: کا خیال سے ہٹانا کو سے ہٹانا۔ ــ ہ: کو چلانا، کی سربراہی کرنا، کا انتظام کرنا، کا بندوبست کرنا، کا نظم و نسق کرنا، کا نگران ہونا، ــــ ہ/ان: پر غور کرنا، غور کرنا کہ، کو پھر سے سوچنا، پر نظر ثانی کرنا، کو ہر پہلو سے سوچنا، ہر پہلو سے سوچنا کہ۔ اَدَارَ بوجهه اِلی: کی طرف مڑنا، مڑ کر کی طرف دیکھنا۔ مڑ کر کی طرف دیکھنا۔ اَدَارَ رأسَهٗ: کا سر موڑنا، کو منوا لینا، قائل کرنا، کو ہوش میں لانا، اَدار الحدیث في الموضوع: کسی موضوع پر بحث کرنا، بحث چھیڑنا، گفتگو کسی موضوع کی طرف پھیرنا۔ تَدَوَّرَ: گول ہونا یا ہو جانا، مُدَوَّر ہونا۔ اِسْتَدَارَ: گول ہونا، گرد پھرنا، گرد گھومنا، گردش میں آنا، دو چلنا، [illegible]

گردش کرنا۔ ــاِلی: کی طرف متوجہ ہونا، کا رخ کرنا، کے سامنے ہونا۔ ــحول: کے گرد پھرنا، گھومنا، کے گرد چکر کاٹنا۔ ۔ پیچھے دیکھنا، اپنا سر موڑنا۔

دار: مونث جمع دُوْر و دیار و دِیارات و دِیرہ: مکان، عمارت، شاندار عمارت، رہائش، سکونت، رہنے کی جگہ، مسکن گھر، سرکاری قیام گاہ، نشست گاہ، پہلو، رخ، طرف، مقام، جگہ، علاقہ، ملک، (خصوصاً دیار) دارالآثار: عجائب گھر، عجائب خانہ (خصوصاً آثار قدیمہ، اثریات کا) دارالبرید: ڈاکخانہ دارالبقاء: ابدی مسکن، اخروی زندگی، الدار الباقیة: اخروی زندگی، ابدی مسکن، تنقل للدار الباقیة: مرنا، فوت ہونا، الدار البیضاء: کاسابلانکا مغربی مراکش کی بندرگاہ) وہائٹ ہاؤس (واشنگٹن میں) دارالتجارة: تجارتی ادارہ۔ دارُ الحرب: جنگی علاقہ، دشمن کا علاقہ، غیر مسلموں کے ممالک، دارالرِیاسة: صدر مملکت کی قیام گاہ۔ دارالسعادة: قسطنطنیہ۔ دارالسلطنة: قسطنطنیہ۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل) دارالسلام، جنت، بہشت، بغداد، ٹانگانیکا کا دارالحکومت اور بندرگاہ۔ دُور السینما: سینما (جمع) دارُالشرطة: تھانہ، پولیس سٹیشن۔ دارالصنعة یا دارالصناعة: اسلحہ خانہ، اسلحہ سازی کا کارخانہ، میگزین، دار صینی: دارچینی۔ دارالضرب و دار السکة: ٹکسال، جہاں ملک کے سکے ڈھالے جاتے ہیں۔ الدیار العراقیة: عراق (ملک)، دارُالعُلوم: قاہرہ کے ایک کالج کا نام۔ دارُالفناء: دنیوی جہاں یہ دنیا۔ دار القضاء: عدالت۔ خصوصی عدالت۔ دارالکتب: پبلک لائبریری۔ دُوراللھو: مراکز تفریح، نائٹ کلب (جمع) دارالتمثیل: تھیٹر، تماشہ گاہ۔ دارالملك: (شاہی) رہائش گاہ۔ الدیار المِصْرِیَّة: مصر۔ دارالھِجرة: مدینہ شریف۔ دارالایتام: یتیم خانہ۔ دارَة: جمع دارات: (چاند کا) ہالہ، دائرہ، دورہ، گشت، کوٹھی۔ دارِيّ: گھریلو، خانگی، دیسی، ملکی۔ دُوْرِيّ: پالتو (جانور)۔ عُصْفُوْرٌ دُوْرِيّ: گھریلو چڑیا یا پالتو چڑیا۔ دَوْر: جمع اَدْوار: (گشت کا) چکر، (کھیلوں کا) راؤنڈ، کردار، کام، کردار، جو کوئی شخص یا چیز ادا کرے، فلمی کردار، سٹیج پر کیا گیا کردار، وقتاً فوقتاً تبدیلی، باری باری، عرصہ، مدت، وقت، تبادل، فصلی گردش۔ (کسی کی) باری، دور، مرحلہ، قدم، درجہ، رتبہ، حیثیت، جگہ، مقام، دور، زمانہ، (بیماری کا) حملہ، دورہ یا اچانک غلبہ۔ منزل (عمارت کی) فلور (عمارت کا)، نغمہ نگاری، نغمہ گری، کسی پروگرام میں، اکیلا کام۔ دورٌ و تسلسل

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

استدلالِ دوری، استدلال کا چکر، دورٌ نهـائـی: آخری مقابلے۔ فیصلہ کن راؤنڈ۔ دورُ الانـعـقـاد: اجلاس (پارلیمنٹ وغیرہ کا) الـدور الاوّل یـا دورُ الـطّولة: سب سے اہم کردار، ہیرو یا ہیروئن کا کردار۔ قام بدَورٍ یالعب دوراً: ایک کردار ادا کرنا۔ دورٌ ارضی: گراؤنڈ فلور، نچلی منزل۔ پہلی منزل۔ کان دوره: یہ اس کی باری تھی۔ الدورُ لَهُ: یہ اس کی باری ہے۔ (انا) بدوری: میں ذاتی طور پر جہاں تک میرا تعلق ہے۔ هو بدورهِ: وہ اپنی باری پر، اپنی طرف سے وہ ذاتی طور پر۔ بالدّور: باری باری، باری باری سے۔ دَوْرة جمع دَوْرات: چکر، گردش، محوری گردش، دوران، دور، دورہ، گشت، روح القدس کا ظہور، دورہ (فنکار وغیرہ کا) چکر یا پھیر۔ عرصہ، مدت، اجلاس (پارلیمنٹ کا)، نصاب (تعلیم کا) الدورة الدمویّة: دورانِ خون۔ الدورة الحیویة: دوران ہوا۔ دورة احتیاطِ (تـخـاوُر) الرُّتبة: فوجی افسروں کا تربیتی کورس۔ دَوْرة زراعیة: فصلی گردش۔ دورة تشریعیة: قانون سازی کا عرصہ۔ دورة الفَلَك: اجرام سماویہ کی گردش۔ دورة التـفـافـیة: چکر کاٹ کر دشمن پر عقب سے حملہ آور ہونے کی عسکری حرکت۔ دورة مالیه: مالی مدت، مالیاتی سال۔ دورة المِیاه: غسل خانہ، طہارت خانہ، بیت الخلاء، فلش کا طہارت خانہ۔

دَوْرِی: گشت کرنے والا، گشت کا، میعادی، فصلی، موسمی، گردشی، باقاعدہ اوقات میں واقع ہونے والا، بار بار واقع ہونے والا، باری کا، وقفہ وقفہ کا رہ رہ کر آنے والا، گردش کے متعلق، دوری، حلقہ وار، (کھیلوں کا) سلسلہ۔ الجهازُ الدَّوْری: نظامِ دورانِ خون۔

دَوْرِیة: جمع دوریات: گشت، گشتی پارٹی، دیکھ بھال کا دستہ۔ دوریـات الاسـتـکـشـاف: دیکھ بھال کے دستے، گشتی دستے۔ داوِریة: بمعنی دَوْرِیة۔ دَیْـر جمع اَدْیار واَدْیِـرة و دُیُورة: خانقاہ، صومعہ، دیرا، دھرم سالہ، عیسائی راہباؤں کی خانقاہ، مذہبی عورتوں کے رہنے کی عمارت، تکیہ، حجرہ۔

دَیْـرِیّ: خانقاہی، راہبانہ، تکیہ کا۔ دِیْـرة: علاقہ، ملک، وطن۔ دُوَار و دَوَار: دوران سر، چکر، بحری سفر کی بیماری۔ قے، متلی۔ دَوَّار: تیزی یا تسلسل سے گھومنے والا، چکر کھانے والا، گردش کرنے والا، ایک محور پر گھومنے والا۔ محوری، باری باری کا گول گول پھرنے والا، گشتی، دورہ کرنے والا، گرداب، بھنور، چکر، چلتا پھرتا ہوا، خانہ بدوش، سفری، دورہ کرنے والا۔ متحرک۔ بھٹکتے پھرنے والا۔ مارا مارا پھرنے والا۔

بـابٌ دَوّار: گھومنے والا دروازہ۔ بـائـعٌ دَوّار: پھیری والا، خوانچہ والا، ٹھیلے والا، بساطی، جهازُ حفرٍ دَوّارٌ: سوراخ کرنے کی گھومنے والی مشین۔ دوار الشمس: سورج مکھی۔ دَیّار: خانقاہی، راہبانہ، راہب، درویش، زاہد، عابد، جوگی، تارک الدنیا۔ دَیْرانی: بمعنی دَیّار۔ دَوّارة: بھنور، گرداب، پرکار، دَوّارةُ الهواء: بادنما، سمت نما، مرغِ بادنما۔ دِیارِی: گھریلو، دیسی، ملکی، دَوَران: مڑنا، دور، گردش، چکر، محوری یا مداری گردش، دوران، دوری حرکت، گردش زمانہ، گشت، گول گول پھرنا، گھیر لینا، چکر لگانا، دورہ کرنا، گشت کرنا، دورہ، گشت، سیاحی یا سرکاری سفر۔ اَدْوَر عـلـی الاَلْسُـن: جس کے بارے میں زیادہ بات چیت کی جائے۔ اکثر و بیشتر ظاہر کیا یا بحث کیا جانے والا۔

مَدَار جمع مَدارات: اجرام فلکی کا مدار، گول گول پھرنا، چکر لگانا، چکر، دوران، گردش، دوری حرکت، محور، دھرا، فرضی خط جس پر کوئی چیز گردش کرتی ہے۔ دونیم کرنے والا خط، چول مدار، اصل یا مرکزی نقطہ، دار و مدار، مرکزی بنیادی یا فیصلہ کن عنصر، مرکز، موضوع (بات چیت مذاکرات وغیرہ کا) موقع، گنجائش، حد، وسعت دسترس، زد، فاصلہ، سلسلہ کرہ، فلک، دائرہ، حلقہ، خط سرطان یا خط جدی، رخ ٹھیک رکھنے کا پہیہ Steering.wheel مدار السرطان: خط سرطان کا مدار۔ مـدار الـجَـدی: خط جدی کا مدار، کـان مدارُه عـلـی: یہ (جھگڑا وغیرہ) کے بارے میں تھا۔ یہ پر منحصر تھا۔ عـلـی مدارِ السَّنة: تمام سال، سال بھر، تـدْوِیر: قرآن مجید کی درمیانی رفتار سے تلاوت (یہ تجوید کی ایک فنی اصطلاح ہے)۔ مُـداوَرة: جمع مُداوَرات: دھوکا دینا، فریب، جھوٹ، مکر، ریاکاری، دغا، ذہانت سے مغلوب کرنا، حکمت عملی سے حریف کو نیچا دکھانا، جھانسا، ٹال مٹول کی کوشش، نئی ترکیب، چالاکی، عیاری، جھکائی دیکر نکل جانا۔ روپوش ہونا، ترغیب، بہکانا، پھسلانا، دام میں گرفتار کرنا، چال میں پھانسنا۔ اِدارة: موڑنا، واپس آنا، رجوع کرنا، الٹا کرنا، اوندھا کرنا، شروع کرنا، سٹارٹ کرنا، چلانا، عمل، عمدہ بندوبست، خوش انتظامی، انتظام، بندوبست، نظم ونسق، انتظامیہ، انتظامی ایجنسی، محکمہ، دفتر یا سرکاری محکمہ۔ ادارة الامن: پولیس۔ ادارة عُرفیة: فوجی انتظامیہ، سوءُ الادارة: بدانتظامی، مجلسُ الادارة: مجلس ناظمین Board of directors مجلس انتظامیہ، انتظامی کمیٹی، مـرکـز الادارة: مرکز انتظامیہ، صدر دفتر، ہیڈکوارٹر۔ اداری: انتظامی، محکمانہ، انتظامی افسر، منیجر (کھیلوں کا) اِداریاً: انتظامی ذرائع سے سرکاری طور پر، منتظمانہ طور پر۔ استدارة: گولائی چکر۔ دائـر: مڑنے والا، موڑنے والا، گھمانے والا، چکر دینے والا، گردش کرنے والا، چکر کھانے والا، دورہ کرنے والا، پھرنے والا، گشت کرنے والا، گشتی رواں، چلتا ہوا، جاری مروجہ (محاورہ) عام، متحرک، چلتا پھرتا ہوا، خانہ بدوش، سفری، دورہ کرنے والا، ہو رہا، چل رہا۔ کام کرنے والا، چالو، (مشین، انجن) گول۔ دائـرة: جمع دوائر: دائرہ، حلقہ، محیط، گھیرا، گھیر، احاطہ، کرہ، فلک، دسترس، رسائی، گنجائش، موقع، امکان، میدان، مار، زد، فاصلہ، فرق، وسعت، رسائی، پہنچ، حد، دورہ، گشت، دور، شعبہ، سرکاری ایجنسی محکمہ، دفتر، عدالت انصاف کا محکمہ، کھیت، فارم، جاگیر، مصیبت، آفت، فی دائرة: کے ڈھانچہ میں۔ علی شـکـل نصف دائره: نیم گول۔ نـقـطـة الدائرة: اہم عنصر، مواد، محور، فیصلہ کن نقطہ، بشکل معاملہ، اشکال۔ دائرة کهربائیة: برقی سرکٹ۔ دائرة قصیرة: شارٹ سرکٹ۔ دائـرة الـمـعـارف: انسائیکلوپیڈیا۔ دوائـر الـحـکـومة: سرکاری حلقے۔ الـدوائـر الرسمیة (السـاسـیة العکریة): سرکاری (سیاسی، فوجی) حلقے۔ دائـرة الاختصاص دائرة اختیار۔ الدائرة السَّنِیة: سول فہرست۔ دائرة اِسْتِئنافیة: عدالت اپیل۔ دائرة انتخابیة: انتخابی حلقہ۔ دارت عـلـیـه الدَّوائِر: مصائب جھیلنا، دائری: گول، چھلے کی شکل کا، مُدَوَّر: گول۔

مُـدِیـر: سربراہ، چیف، ڈائریکٹر، ہیڈ، ناظم، مہتمم، ناظر، منیجر، سپرنٹنڈنٹ (یونیورسٹی کا) ریکٹر Rector حاکم، جمع مُدَراء: ضلع کا انتظامی افسر، مدیرُ الجوق: سنگت کا لیڈر، سازندوں کا مہتمم۔ مُدِیـرة: خاتون ڈائریکٹر، خاتون مہتمم۔ مُدِیـرِیة: انتظامیہ، نظم ونسق عمدہ بندوبست جمع مُدِیریات: صوبہ، کسی وزارت کا بڑا محکمہ۔

مُسْتَدِیر: گول۔ مؤتمر المائدة المستدیرة: گول میز کانفرنس۔

دُوْرَق: جمع دَوارِق: شیشے کی صراحی۔

دوز: دَوْزَنَ القانون ونحوه: ستار و سارنگی وغیرہ کے تار کسنا (فارسی لفظ ہے اس کا ہم معنی عرب لفظ: بَـصَّ وبَظَّ ہے الدُوزان دَوْزَن سے اسم (مو) موسیقی کے آلات کسنے کا آوزار۔

دَوْزَن: موسیقی کے آلہ کے سُر ٹھیک کرنا۔ ریڈیو پر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(کوئی جگہ) لگانا۔ دَوْزَان و دوزنة: کسی آلہ موسیقی کے سر ٹھیک کرنا۔ دَوْزَنَة ریڈیو پر (کوئی جگہ) لگانا (پروگرام سننے کیلئے)۔

دَوْرِيَنَة درجن۔

داس ا۔ دَاسَ ـ دَوْسًا و دِيَاسًا و دِيَاسَةً الشيءَ: کو پاؤں سے روندنا، ذلیل کرنا۔ ـــ وَادَاسَ الزرعَ: فصل کو گاہنا۔ دَاوَسَ القومُ بعضُهم بعضًا في القتال لڑائی میں ایک دوسرے کو پاؤں سے روندنا، پامال کرنا۔ اِنداسَ الشيءُ روندا جانا، ـــ فلانٌ ذلیل کیا جانا۔ الدِيسَة: جمع دِيَس و دِيَس گھنا جنگل۔ المِدْوَس والمِدْوَاس جمع مَدَاوِس: روندنے کا آلہ۔ المَدَاس جوتا، سلیپر، المَدَاسَة کھلیان۔ الدَوَّاس بہادر، شیر۔ الدَوَّاسَة (حي) لکڑی جسے جولاہا کرگہ کے نیچے رکھتا ہے تاکہ دھاگے پھول جائیں۔ پیڈل

۲۔ دَاسَ ـ دَوْسًا و دِيَاسًا و دِيَاسَةً السيفَ: تلوار صیقل کرنا۔ انداس السيفُ: تلوار صیقل ہونا۔ المِدْوَس و المِدْوَاس جمع مَدَاوِس. پالش کرنے کا آلہ۔

۳۔ الدُواسة والدَوِيسة: جماعت، گروہ۔ الدَوَّاسة ناک۔

○ دَاسَ ـ دَوْسًا و دِيَاسًا ہ: پر قدم رکھنا، چلنا، کو روندنا، کچلنا، پامال کرنا۔ (فصل) گاہنا۔ ـــ ہ: کو ذلیل کرنا۔ ـــ ہ: (بس وغیرہ کا) کسی کو نیچے لے لینا۔ اِنداس: روندا جانا، کچلا جانا، پامال ہونا، گاہا جانا، ذلیل ہونا، (گاڑی کے) نیچے آ جانا۔ دوس: روندنا، کچلنا، قدم، دِيسَة: گھنا جنگل، جنگل، درختوں کا جھنڈ، گنجان جھاڑیاں۔ دَوَّاسة: پیڈل۔ مَداسَ: جوتا سینڈل۔ مَدُوس و مُداس: روندا ہوا، کچلا ہوا، کچلا ہوا، (گاڑی کے) نیچے آیا ہوا۔

○ دُوسِنطارِيَة و دوسنطاريا و دوسنتاريا: پیچش۔ آنو اور لہو کے دست۔

○ دُوسِية و دوسية: جمع دوسيات: فائل (File)۔

دوش: دَوِشَ ـ دَوَشًا ت عينُهُ: بیماری سے کی آنکھ خراب ہونا۔ صفت۔ اَدْوَشُ مونث دَوْشاء: جمع دُوش۔

○ دَوَشَ ہ: کو پریشان کرنا، شور سے مخبوط کر دینا۔ دَوْشَة: غل، شور و غل، غل غپاڑہ، ہنگامہ، چیخ و پکار۔

○ دُوش: جمع دُوشات بوچھاڑ، فوارے کے نیچے غسل، پانی کی پچکاری۔

○ دَوْطَة: جہیز۔

داغ: دَاغَ ـ دَوْغًا القومُ: قوم میں بیماری کا پھیل جانا۔ ـــ الطعامُ: غلہ کا ارزاں ہونا۔ ـــ ہ الحرُّ: گرمی کا کسی کا حلیہ بگاڑ دینا۔ الدَوْغَة: حماقت، سردی۔

○ دَوَّغَ: داغنا، پکا نشان لگانا۔ داغ: جمع دَاغات داغ (جانوروں پر لگایا جانے والا)

داف: دَافَ ـ دَوْفًا و اَدَافَ الدواءَ و نحوه: دوا وغیرہ کو ملانا، پانی میں پگھلا کر گاڑھا کرنے کیلئے حرکت دینا صفت: مَدُوفٌ و مَدُوُوفٌ و دائفٌ۔

○ دَافَ ـ دَوْفًاہ في: کو سے میں ملانا، مخلوط کرنا کو میں جمع کرنا، کی میں آمیزش کرنا۔

داق: دَاقَ ـ دَوْقًا دُؤُوقًا و دُؤُوقَةً و دَوَاقَةً: دبلا و لاغر ہونا۔ بیوقوف ہونا۔ صفت دائق ـــ الطعامَ: کھانا چکھنا۔ اَدَاقَ القومُ به: لوگوں کا کسی کو گھیر لینا۔ اِنْدَاقَ اِنْدِيَاقًا بطنُهُ کا پیٹ پھولنا۔ الدُوق: حماقت۔ بیوقوفی۔ (مونث دُوقة) ڈیوک، نواب، مونث نواب بیگم۔ الدَوْقَة و الدوقانية حماقت، خرابی، فساد۔

○ دُوق: نواب۔ دُوقة: نواب بیگم دُوقِي: نوابی، ڈیوک کا۔ دُوقِية: نواب کا علاقہ، جاگیر، نوابی، نوابی ریاست۔

داك: ا۔ دَاكَ ـ دَوْكًا و مَدَاكًا القومُ: بیمار ہونا، مضطراب ہونا۔ تَدَاوَكَ القومُ: لڑائی یا فساد میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا۔ الدُوكة و الدَوْكة: جھگڑا، شر، فساد۔

۲۔ دَاكَ ـ دَوْكًا و مَدَاكًا الشيءَ: کو کوٹنا، رگڑنا، پیسنا۔ المِدْوَك و المَدَاك: پیسنے یا رگڑنے کا پتھر۔

○ دَوَّكَ: بک بک کرنا، چپڑ چپڑ باتیں کرنا، بچوں کی سی باتیں کرنا۔ دَوْكة: غل، شور و غل، غل غپاڑہ، شور و غوغا، ہنگامہ، دھینگا مشتی، ہلچل، افراتفری، شورش، بلوہ، دنگا، بے چینی، اضطراب، الجھن، ابتری۔

دول: ا۔ دَالَ ـ دَوْلَةً الزمانُ: زمانہ کا ایک حال سے دوسرے میں بدلنا۔ کہا جاتا ہے۔ دالت له الدولةُ: اس کے لئے مال و دولت الٹ گیا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ ـــ الرجلُ في مشيه: چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔ دَاوَلَ مُدَاوَلَةً الله الايامَ بين الناس: اللہ تعالیٰ کا زمانہ کو لوگوں کے درمیان ادل بدل کرلانا۔ یعنی اگر ایک زمانہ آج ایک کے لئے ہے تو کل دوسرے کے لئے ہو جائے۔ ـــ الماشيُ بين قلميه: کبھی ایک قدم پر آرام لینا کبھی دوسرے پر۔ اَدَالَ اِدَالةً الشيءَ: باری باری سے ایک کے بعد دوسرے کو دینا۔ ـــ الله بني فلان من عدوهم الله: اللہ تعالیٰ کا فلاں قبیلہ کو اس کے دشمن پر غلبہ دلانا اور فتح [illegible] کا زید سے دولت لے کر عمرو کو دے دینا۔ تداولت ذ الايدي: کو باری باری سے لینا۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ تداولوا الشيءَ بينهم انہوں نے چیز کو باری باری سے لیا۔ اِنْدَالَ القومُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اِسْتَدَالَ الايامَ: زمانہ کو اپنے موافق کر لینا۔ الدَوْلَةُ (مص) جمع دِوَل و دُوَل. وہ چیز جو لوگوں کے پاس بدل کر آتی ہے۔ اس لئے اس کا اطلاق مال و غلبہ پر ہوتا ہے اور عام طور پر ریاست یا ملک پر۔ (چنانچہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے۔ دولةُ لبنان: لبنان کا ملک۔ الدُوَل العربية: عرب ریاستیں، عرب ممالک) حکومتی اجنبی یا عہدہ دار۔ (کہا جاتا ہے: كانت لنا عليهم الدولة. ہم کو ان پر غلبہ نصیب ہوا۔ لكلِ زمانٍ دولةٌ و رجالٌ ہر زمانہ کے لئے ایک ریاست اور بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ الدهرُ دُوَلٌ: زمانہ کو ایک حال پر قرار نہیں بلکہ ادل بدل کر آتا رہتا ہے۔ صاحب الدولة: وزیر اعظم کا لقب۔ الدُوْلَة: باری باری ایک دوسرے کے پاس جانے والی چیز لہٰذا اس کا اطلاق مال اور غلبہ پر ہوتا ہے۔ الدُولَة: جمع دُوَلات: مصیبت۔ الاِدَالَة: غلبہ۔ دَوَالَيْك: ایک کے بعد ایک۔ یعنی کام کو یکے بعد دیگرے کرو۔ مقصود تاکید ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ فعلنا ذلكَ دَوَالَيك: ہم نے اس کو باری باری سے کیا۔

۲۔ دَالَ ـ دَوْلَةً بطنُهُ: کے پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔ اِنْدَالَ بطنُهُ: کے پیٹ کا بڑا ہو کر زمین کی طرف لٹکنا۔ ـــ مافي بطنه: کے پیٹ کی چیز کا نکلنا۔ ـــ الشيءُ: چیز کا لٹکنا۔

۳۔ دَالَ ـ دَالَةً و دَوْلًا: مشہور ہونا۔ الدَالَة: شہرت۔

○ دَالَ ـ دَوْلَةً: وقتاً فوقتاً بدلنا، باری باری کرنا، باری باری ہونا یا ہونے دینا، گردش کرنا، باری باری آنا (وقت، دولت کا) بدلنا، پلٹنا، دالت دولة الاستبداء: مطلق العنانی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ دالت له الدولة: غلبہ اس کے حق میں ہو گیا۔ دالت عليه الدولة: غلبہ اس کے خلاف ہو گیا۔ دَاوَلَ ہ/ہ: کو باری باری لانا، گردش دینا۔ ـــ الايامَ: دنوں کو ایک دوسرے کے بعد لانا۔ (اللہ تعالیٰ کا) ـــ بين: کے مابین باری باری ہونے دینا۔ ـــ ہ في: سے کے بارے میں گفتگو کرنا۔ سے پر بات چیت کرنا۔ مباحثہ کرنا۔ اَدَالَ ہ من: کو پر برتری دینا، غلبہ دینا، عروج دینا۔ ـــ ہ علي: کو پر فتح مند بنانا، فتح دینا۔ ـــ ہ ب/من: کو کا قائم مقام بنانا، کو کی جگہ رکھنا کو سے بدلنا، ادلا بدل کرنا۔ اُدِيلَ لبني العباس من بني امية: حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں سے نکل

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کر بنو عباس کے پاس چلی گئی۔ تداول ہ سے اول بدکرنا، کا باری باری واقع ہونا، ایک دوسرے کے بعد لانا۔ ایک دوسرے کو کچھ دینا۔ کے درمیان کوئی چیز باری باری منتقل کرنا۔ ــــ ہ مختلف چیزوں سے باری باری نبٹنا، مختلف چیزیں باری باری سے ہاتھ میں لینا، کبھی یہ کبھی وہ لینا، پے در پے بعد دیگرے بحث کرنا، ۔ سوچ بچار کرنا، مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا، ۔ الرای تبادلہ خیالات کرنا، کو اکثر استعمال کرنا۔ ــــ گردش کرنا، گردش میں ہونا، چالو ہونا، رائج ہونا، رائج الوقت ہونا، مروجہ ہونا، عام استعمال میں ہونا۔ تداولته الایدی ایک سے دوسرے ہاتھ تک پہنچنا، گردش کرنا، پھیلنا ــــ تداولته الالسن ایک منہ سے نکل کر دوسرے تک پہنچنا، کا شہر میں چرچا ہونا، ہر ایک کے لب پر ہونا۔ دولة جمع دول تبادل، ہیرا پھیری، اول بدل دور، گردش، چکر، تبدیلی. وقت کی تبدیلی، قسمت کا پلٹنا، مال و دولت کا انقلاب، شاہی گھرانہ، ریاست، ملک، طاقت، حکومت، فرمانروائی، قلمرو، صاحبُ الدولہ وزیر اعظم کا لقب۔ دولة رئیس الحکومة فضیلت مآب وزیر اعظم۔ فخامةُ الدولة صدر کا لقب۔ الدولةُ العَلِیة قدیم عثمانی قلمرو، الدول الکُبریٰ او العظمی بڑی طاقتیں۔ دولة مُتَمَدِّنَة ابتدائی طاقت۔ دَوْلة = رَکْوِی (کافی بنانے کا دھات کا برتن جس کا دستہ لمبا اور بڑا ہوا ہوتا ہے۔) دَوْلی ریاست کا۔ دُوَلِی بین الاقوامی۔ دُوَلِیَة بین الاقوامیت، بین الاقوامی اتحاد۔ دو یا زیادہ ممالک کی ٹیموں کا مقابلہ۔ دُوَیلات چھوٹی ریاستیں، چھوٹے ملک۔ دَوَالَیْك باری باری سے، باری باری، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک ایک کرکے، پے در پے۔ وھکذا دَوَالَیْك وغیرہ وغیرہ، الخ، وقس علی ھذا۔ تَدْوِیل کسی چیز کو کئی قوموں کی حفاظت یا مشترکہ کنٹرول میں لانا، بین الاقوامی بنانا، مُدَاوَلَة جمع مُدَاوَلات گفت و شنید، مذاکرات، بات چیت، تبادلہ خیال، گفتگو، غور و فکر، سوچ بچار، بحث مباحثہ، صلاح مشورہ، مشاورت، مذاکرات، مباحثہ، مُدَاوَلَةً اپنی اپنی باری سے، ایک کے بعد دوسرا، ایک ایک کرکے، باری باری سے، ایک وقت میں ایک۔ تَدَاوُل اول بدل، ہیرا پھیری، گردش، دوران اشاعت، چالو، مروجہ یا رائج الوقت ہونا، عام استعمال، سرمایہ کی گردش۔ بالتداول اپنی اپنی باری سے ایک کے بعد دوسرا، ایک ایک کرکے۔ ایک وقت میں ایک، باری باری۔ مُتَداوِل رائج، رائج الوقت۔ چالو، مروجہ، عام استعمال میں، اشاعت پذیر، گردش، ضابطہ کے مطابق، عام۔ الکلامُ المتداول عام بول چال کی زبان روزمرہ بول چال کی زبان۔

دام ۱۔ دَامَ دَوْمًا و دَوَامًا و دَیْمُومَةً ثابت رہنا، دراز مدت تک رہنا، جاری رہنا۔ ــ الشیءُ ٹھہرنا، ــ ت السماءُ آسمان کا لگاتار بارش برسانا۔ یہ قول۔ ــ دِمْت تدوم ماضی میں عین کے کسرہ سے اور اس کے ضمہ سے مضارع میں شاذ ہے۔ مادام افعال ناقصہ میں ہے جیسے: لا یجری الاصلاح مادام فلان حاکمًا جب تک فلاں شخص حاکم ہے۔ اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں۔ دَوَّم تَدْوِیمًا تِ السماءُ آسمان کا لگاتار بارش برسانا۔ ــ القِدرَ ٹھنڈا پانی چھڑک کر ہانڈی کے جوش کو ٹھنڈا کرنا۔ ــ الشیءَ کو تر کرتے رہنا۔ دَیَّمَ ت السماءُ آسمان کا لگاتار برسنا۔ دَاوَمَ الشیءَ کی ہمیشگی طلب کرنا، کو مہلت سے کرنا۔ ــ علی الامر پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ اَدَامَ اِدَامَةً الشیءَ کو ہمیشہ رکھنا ــ القِدرَ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی چھڑک کر ہانڈی کا جوش ٹھنڈا کرنا۔ ــ الامرَ کی مداومت کرنا۔ ــ ت السماءُ آسمان کا لگاتار برسنا۔ تَدَوَّمَ انتظار کرنا۔ اِسْتَدَامَ اِسْتِدَامَةً الشیءَ کی ہمیشگی طلب کرنا، کو مہلت دینا۔ الدَّوُوم (مص): ہمیشہ رہنے والا۔ الدائم (فا) اللہ تعالیٰ۔ ھو یزورنا دائمًا وہ ہر وقت ہمارے پاس آتا رہتا ہے۔ ماءٌ دائمٌ ٹھہرا ہوا یا کھڑا پانی۔ الدِیمَة جمع دِیَم و دُیُوم جم کر برسنے والی بارش، جس میں بجلی اور گرج نہ ہو، کہا جاتا ہے۔ مطر تھم السماءُ بدیمةٍ و بدِیَم ان پر آسمان بارش برستا رہا جس کے دوران گرج چمک نہیں ہوئی۔ الدَّیُّوم: دائم، ہمیشہ۔ المِدْوَم و المِدْوَام: ڈوئی یا کفگیر جس سے ہانڈی کا جوش بٹھایا جاتا ہے۔ المُدام: مسلسل بارش۔ ــ و المُدامَةً: شراب۔ المُدِیم جس کی ناک سے خون جاری ہو۔ المَدِیم: جہاں مسلسل بارش ہو کہا جاتا ہے۔ مکانٌ مدیمٌ و ارضٌ مَدِیمة مسلسل بارش والی جگہ اور زمین۔ الدَّأماء: سمندر۔

۲۔ دَامَ دَوْمًا و دَوَامًا و دَیْمومَةً الشیءُ: گھومنا۔ دِیمَ و اُدِیمَ بہ کا سر چکرانا۔ دَوَّم تَدْوِیمًا الطائرُ پرندہ کا ہوا میں اڑنا، چکر لگانا۔ ــ ت الشمسُ سورج کا وسط آسمان میں گھومنا۔ ــ تِ الخمرُ شاربھا شراب کا شرابی کے سر کو چکرا دینا۔ ــ العمامةَ پگڑی سر کے گرد لپیٹنا۔ ــ ت عینہ کی آنکھ کا حلقہ میں پھرنا۔ ــ الزعفران فی الماءِ زعفران کو پانی میں رگڑ کر گھسنا۔ ــ بالدُّوَّامَةِ لٹو سے کھیلنا۔ اِسْتَدَامَ اِسْتِدَامَةً الطائرُ پرندے کا ہوا میں اڑنا، چکر لگانا۔ ــ الدُّوَام دوران سر۔ الدَّوَمان پرندہ کا منڈلانا۔ الدُّوَّامة جمع دُوَّام لٹو۔

۳۔ دَامَ دَوْمًا و دَوَامًا و دَیْمومَةً تِ الدلوُ: ڈول کا بھرنا۔ اَدَامَ اِدَامَةً الدلوَ ڈول کو بھرنا۔

۴۔ اِسْتَدَامَ اِسْتِدَامَةً غریمَہُ اپنے قرض خواہ سے نرمی کرنا۔

۵۔ الدَّوْم (ن) کھجور سے مشابہ ایک درخت، بڑے بڑے درخت۔ الدّاما مہرہ بازی۔ الدیمس ایک قسم کا کپڑا۔

(ج) دَامَ دَوْمًا و دَوَامًا قائم رہنا، باقی رہنا، زندہ رہنا، برقرار رہنا، جاری رہنا، پائدار یا دیرپا ہونا (کرتے) رہنا، ثابت قدم رہنا۔ مادَامَ جب تک چونکہ کیونکہ، جب کہ، مادام حَیًّا جب تک وہ زندہ ہے۔ مادمتُ مَعَك جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، جب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دَوَّمَ دائرہ میں گھومنا، گھومنا، مڑنا، چکر کھانا، گردش کرنا ــ ہ کو گھمانا، چکر دینا، کو دوسوتی بنانا، تاننا، کاتنا۔ دَاوَمَ علی: پر ثابت قدم رہنا، جما رہنا۔ ڈٹا رہنا، قائم رہنا، کو تن دہی، مستعدی یا ثابت قدمی، سے کرنا۔ کو ثابت قدمی یا محنت سے کرتے رہنا۔ ــ جاری رہنا۔ اَدَامَ ہ کو قائم رکھنا، باقی رکھنا، برقرار رکھنا، مستقل بنانا۔ اِسْتَدَامَ ہ: کو جاری رکھنا، قائم رکھنا، باقی رکھنا، برقرار رکھنا، کو کرتے رہنا، پر جمے رہنا۔ دَوْم جاری رہنا، مستقل ہونا، پائداری، مدت، دوران۔ دَوْمًا: ہمیشہ، ہر وقت، ہمہ وقت، ہمیشہ کیلئے۔ دِیمَة: جمع دِیَم و دُیُوم: مسلسل بارش۔

دَوَام مدت، دوران، تسلسل، استمرار، دوام، ہیشگی، مداومت، بقا، ثبات، تواتر، پائیداری، قیام، ثابت قدمی، استقلال، ــ علی: (کسی کا) (کسی جگہ) قیام۔ دَوَامًا و علی الدَّوَام: ثابت قدمی سے، استقلال سے، دوامی طور پر، ہمیشہ، دائمی طور پر، ہمہ وقت، ہر وقت۔ سَاعَاتُ الدَّوَام، اوقاتُ الدوام، وقت الدوام: کام کے اوقات، دفتر کے اوقات۔ دَیْمُومَة بمعنی دَوَام دُوَّامَة لٹو (بچوں کے کھیلنے کا) گرداب، بھنور، راس (مشلث کا) مُدَاوَمَة: استقلال، ثابت قدمی۔ پائیداری۔ استمرار، قیام، تسلسل۔ دوام، ہیشگی، مدت، زمانہ، عرصہ، میعاد، اجرا۔ دائِم پائدار، دائمی، دیرپا، مستقل، ازلی، ابدی، غیر محدود، لامتناہی، لاانتہا، ہمیشہ رہنے والا، قائم و دائم، لایزال، جاوید، غیر فانی،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دائمی، دوامی، استمراری، متواتر، مسلسل، لازوال، ابدی، سال بھر چلنے والا، لگاتار، پے در پے، جاری، برقرار، غیر منقطع پیہم، بلا ناغہ، ثابت قدم، راسخ، مستقل، قائم، برقرار۔ دائِمُ التقدم و النمو متواتر ترقی اور بالیدگی کی حالت میں۔ دائماً ہمیشہ۔ دائِمًا ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ دائِمِی بمعنی دائم ۔ مُدَام شراب۔ مُستدیم مستقل، ثابت قدم، متواتر، دوران، جاری، دائمی. دوامی، برابر جاری، مسلسل، لگاتار، مدامی، پیہم، پے در پے، برابر۔ بلا ناغہ، بلاتوقف۔

⊙ دُومان پتوار، دُومانجی پتوار چلانے والا، سکان گیر۔

داں ا۔ دَانَ۔ دَوْنًا کمزور ہونا، خسیس ہونا۔ اُدِیْنَ کمزور ہونا، خسیس ہونا۔ الدُوْن حقیر نچلے درجے کا خسیس۔ کہا جاتا ہے۔ شیءٌ دُوْنٌ حقیر گھٹیا چیز۔ کبھی شریف کے معنی بھی دیتا ہے۔ دُوْن کے نیچے۔ کہا جاتا ہے۔ ھو دُوْنَہٗ وہ اس سے درجہ میں پست ہے۔ دُوَین۔ دُوْن کی تصغیر۔

۲۔ دَوَّنَ الدیوانَ: دیوان کی تصنیف کرنا۔ رجسٹر بنانا۔ ـہٗ: کا نام رجسٹر میں لکھنا۔ الدِیْوَان والدَیْوَان: جمع دَوَاوِین و دَیَاوِین: کتابوں کا مجموعہ، شعروں کا دیوان، فوجی سپاہیوں اور وظیفہ خواروں کا رجسٹر، کچہری، کونسل۔

۳۔ تَدَوَّنَ مال دار ہونا۔

۴۔ دُوْنَكَ اسم فعل بمعنی خُذ (لے، پکڑ) کہا جاتا ہے۔ دُوْنَكَ زیداً زید کو پکڑ۔ دُوْنَ: کے علاوہ کے بغیر (مِن دُوْنِ اَنْ یَفْعَلَ: بغیر اس کے کہ وہ ایسا کرے) آگے۔ کہا جاتا ہے۔ مَشَی دُوْنَہٗ: وہ اس کے آگے چلا۔ اور کہا جاتا ہے۔ حَالَ القومُ دُوْنَ فلان: لوگ اس کے اور اس کے مطلوب کے درمیان حائل ہو گئے۔

⊙ دَوَّنَ ہ کو قلمبند کرنا، ضبط تحریر میں لانا، کو محفوظ کر لینا، لکھ لینا، کا اندراج کرنا، (اشعار) جمع کرنا، دَوَّنَ شرطاً: صاف صاف شرط لگانا۔ تَدُوَّنَ: ریکارڈ پر آ جانا لکھا جانا، قلمبند ہونا۔ دِیْوَان جمع دَوَاوِین خزانہ کا بہی کھاتہ۔ (قدیم اسلامی انتظامیہ کے دوران) دیوان (اشعار کا جو کسی ایک مصنف نے لکھا ہوا) سرکاری دفتر، انتظامیہ کا دفتر۔ دیوان وزارت، سفارت خانے یا چانسلر کا دفتر، سیکرٹریٹ، لاٹ صاحب کا دفتر۔ ملک کی کونسل، کابینہ، وزارت، کونسل، مشاورتی اسمبلی، مشیروں کی کونسل یا کمیٹی، مجلس عاملہ حکومت، عدالت انصاف، خصوصی عدالت، ہال، دیوان و نرم اور نیچا صوفہ۔ (ریلوے ٹرین کا) ڈبہ، کمرہ۔ لغةُ الدواوین دفتری بولی، دفتری اصطلاحات۔ دیوانُ التفتیش عدالتی یا سرکاری تحقیقات۔ دِیوانی انتظامی سرکاری، عثمانی طرز کا خط۔ تدوین ریکارڈ کرنا لکھنا، اندراج، فہرست بنانا، رجسٹر کرنا، رجسٹری کرنا، اندراج کرنا۔ مُدَوَّنَة جمع مُدَوَّنات ریکارڈ، نوٹ، اندراج، قوانین کا مجموعہ جمع مُدَوَّنات۔ تصنیفات (کسی دے گئے موضوع پر) کتابیں۔ دُوْن حقیر، ذلیل، کمینہ، برا، غریب، ادنی، گھٹیا، کم رتبہ، ناکافی، ناقص۔ عَامَلَہٗ بالدُون اس نے بے التفاتی سے اس کی تحقیر کی۔ دُوْنَ نیچے (رتبہ، قیمت وغیرہ میں) کی یہ جانب، کے بغیر، آگے، بغیر سے زیادہ، کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ کسی طرح بھی نہیں، دُوْنَ ذلك کی طرف جاتے ہوئے، وہاں ہے اس کو انجام دینے سے قبل، لازمی ہے کہ دُوْنَ ذلك خَرْطُ القَتَاد اس سے قبل کہ کوئی وہ کام کرے، اسے ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا۔ مِن دونِ، بدون کے بغیر، کے سوائے۔ بدون ان اور من دون أن: کے بغیر

دُوْنَكَ اسے لے لو ـــــ ہ کا انتظار کرنا، سے بچنا، هُوَ دُوْنَهٗ وہ اس کے نیچے ہے، وہ اس کے معیار کا نہیں۔ كان دونه اهميةً: سے کم اہمیت کا ہونا۔ اِثْمٌ دُوْنَهٗ كلُّ اِثم: ایک ایسا گناہ جس کے سامنے تمام گناہ ہیچ ہیں۔ الذین هم دُوْن ایسنّ العسکریة. فوجی خدمت کے لئے مقررہ عمر سے کم عمر والے، دُوْنَ مانظرِ اِلی: سے قطع نظر، دُوْنَ مافائدةٍ کسی نفع کے بغیر، کسی بھی فائدے کے بغیر، مکمل طور پر ناکارہ۔ تَخْشَی ان یَسْعَدْنَ دونها: اسے خدشہ ہے کہ وہ عورتیں اس سے زیادہ خوش ہوں گی۔ تلك الکتبُ دونَ غیرها صرف وہ کتابیں اور کوئی کتابیں نہیں۔ انا متعجب مِن فضلِكَ دُوْنَ عِلمِكَ میں تمہاری اخلاقی خوبی کا تو مداح ہوں لیکن تمہارے علم و معرفت کا نہیں یا میں تمہاری نیکی کو تمہارے علم سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کَمَّ الأَفْوَاهَ دُوْنَ التَذَمُّرِ والشَکْوَی: اس نے ان کے منہ بند کر دئے۔ ان کو بڑبڑانے اور شکایت کرنے سے روکنے کے لئے۔ اِذا کانَ الغُصْنُ دُوْنَ ما یَحْتَمِلُهُ: اگر شاخ اسے اٹھانے کی کافی قوت نہیں رکھتی۔ وصل دونهم اِلی الغایة یہ وہ تھا، نہ کہ وہ لوگ، جو ہدف تک پہنچا۔ اَشَاحَتْ بوجهها دُوْنَهٗ اس نے اپنا منہ پھیر لیا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ حَالَ دُوْنَ الشیءِ کونہ [illegible]

ماورائے احمر شعاعیں، تحت احمر شعاعیں۔ الموجاتُ دُون القصیرة الٹراشارٹ ویوز (Ultrashort waves) (دس میٹر سے کم لہر کی لمبائی)

⊙ دُوْنَم مربعہ پیمانہ، تقریباً 900 میٹر۔

داہ دَاهَ۔ دَوْهًا حیران ہونا۔ تَدَوَّہ الشیءَ کسی چیز کا متغیر ہونا۔ الامرَ کسی کام میں لگ جانا۔

دوو دَوَّی صحراء میں چلنا۔ الدَوّ و الدویّة صحراء۔

دوی ا۔ دَوِیَ۔ دَوًی. بیمار ہونا ـــــ صدرُهٗ کے سینہ میں کینہ رہنا۔ داوَی مُدَاواةً المریضَ بیمار کا علاج کرنا۔ اَدْوَی اِدْوَاءً بیمار کے ساتھ رہنا۔ ہ کو بیمار کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ یُدْوِی و یُدَاوِی فلاں شخص بیمار بھی کرتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے۔ تَدَاوَی خود اپنا علاج کرنا۔ الدَّوَی بیمار۔ اپنی جگہ پڑا رہنے والا۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ دوًی و رجال دَوًی و نساءٌ دَوًی. (مصدر ہونے کی وجہ سے یہ واحد جمع مذکر مؤنث میں ایک ہی طرح آتا ہے۔ الدَوِی مریض اپنی جگہ پر جم جانے والا، خراب پیٹ والا۔ مکانٌ دَوِیٌّ ناموافق صحت والی جگہ۔ الدَوَاء والدُوَاء والدِواء جمع اَدْوِیَة: دوا۔ اسی سے ضرب المثل ہے۔ لِکُلِّ داءٍ دَوَاءٌ: ہر بیماری کی دوا ہے۔

۲۔ دَوَی۔ دَوِیًّا: کی جھنجھناہٹ سنائی دینا۔ دَوَّی تَدْوِیَةً السحابُ بادل کا گرجنا ـــــ الصوتُ آواز کی گنگناہٹ سنائی دینا۔ الدَوِیّ. آواز، بعض کے نزدیک خاص بادل کی گرج۔ کہا جاتا ہے۔ مافی الدار دَوِیٌّ و دُوِیٌّ و دَوَوِیٌّ. گھر میں کوئی نہیں۔

۳۔ دَوَّی تَدْوِیَةً اللبنُ دودھ پر باریک سی جھلی آنا۔ الدُوَایَة والدِوایَة بالائی، جھلی، پپڑی۔

۴۔ الدَّوَی احمق، بےوقوف۔ الدَوِی احمق، بےوقوف۔ الدَوَاة. جمع دَوًی و دُوِیّ و دِوِیّ و دَوَیَات دوات۔

⊙ دَوَی و دَوَّی: آواز دینا، بجنا، گونجنا، آواز پیدا کرنا، جھنجھنانا، دَاوَی ہ: (مریض) کا علاج کرنا ـــــ ہ (بیماری) کا علاج کرنا۔ تَدَاوَی خود آپ اپنا علاج کرنا، صحت یاب ہونا۔ دَوًی. جمع اَدْوَاء. بیماری، دوی: آواز، شور، گھنٹی کی آواز، ٹھن ٹھن، کھنکھناہٹ، گرج، دھاڑ، زور سے کہنا، گھن گھن (بجلی کی) کڑک، جھنجھناہٹ، گونج، صدائے بازگشت، بازارتعاش۔

دَوَائِي دوائی وار، دوا سے متعلق، ادویاتی، طبی، شفابخش۔

دِوَاء علاج، مُدَاوَاة علاج۔

تَدَاوٍ معالجہ، دوا، صحت، شفا۔

⊙ دُوِی. (بلب کا) ساکٹ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ دِیَالَوج : جمع دیالوجات۔ ڈائلاگ، مکالمہ۔

○ دیباج و دیباجۃ: ریشم، کمخواب، زربفت دیبا۔

○ دَیْبُوت: دلال، بھڑوا، کتنا، چہکنے یا گانے والے پرندہ کی ایک قسم۔

○ دَیْجور: تاریکی، تاریک۔

○ دیسمبر: دسمبر December

داث داث دَیْثًا: نرم و آسان ہونا۔ دَیَّثَ ہٗ: کو ذلیل کرنا۔ ـہٗ الدھرُ: زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا۔ طریقٌ مُدیّث: روندا ہوا راستہ۔

داج داج دَیْجًا و دِیاجًا: تھوڑا چلنا۔

داح داح دَیْحًا: ذلیل ہونا۔ دَیَّحَ ہٗ: کو ذلیل کرنا۔

دید ۱- الدَیْدَن و الدَیْدان: عادت۔

۲- الدیدبان: محافظ سنتری، فوجی، پہریدار۔ محافظ دستہ۔

دیر الدیر: جمع اَدْیِرۃ و دُیُورۃ: راہبوں اور راہبات کے قیام کی جگہ۔ دَیْرانی: دیر کا، دیر کے متعلق،
الدَیّار: دیر والا، دیر میں رہنے والا۔

○ دیر: دیکھو دور۔

داص ۱- داصَ دَیْصًا و دَیَصانًا: ٹیڑھا ہونا۔ ـ ت الغُدَّۃُ بین الجلد و اللحم: غدود کا جلد اور گوشت کے درمیان سرکنا پھسلنا اسی طرح ہر وہ چیز جو تمہارے ہاتھ کے نیچے متحرک ہو اور سرکے، پھسلے۔ ـ دَیْصًا و دَیَصانًا عن الطریق: راستہ سے ایک طرف ہونا۔ ـ دیصًا: لڑائی سے بھاگنا، جنگ سے فرار ہونا، کمینہ ہونا۔
اِنْداصَ: ہاتھ سے پھسلنا۔ الدائص: جمع داصَۃ: چور
المَداص: پانی میں غوطہ لگانے کی جگہ۔ الدیّاص: سخت پٹھوں والا۔

۲- اِنْداصَ بالشر علی فلان: کسی پر اچانک شر و بلا لانا۔

داق: داقَ - دَیْقًا ہٗ: کو اکھیڑنے کے لئے ٹیڑھا کرنا۔

دیک: ۱- الدِیْكُ: جمع دُیُوك و اَدْیاك و دِیَکۃ (ح): مرغا، مہربان، رحم کرنے والا، موسم بہار۔ بیضۃُ الدیك: یہ اس چیز کے لئے بطور مثال لاتے ہیں جو ایک ہی بار ہوتی ہو اور دوبارہ نہ ہو۔ ارضٌ مَداکۃ و مُداکۃ و مَدِیکۃ: بہت مرغوں والی زمین۔

۲- دَیْکَس الرجلُ فی بیتہ: گھر میں چھپ کر بیٹھنا اور لوگوں کی حاجتوں کے لئے باہر نہ نکلنا۔

○ دِیك: جمع دِیکۃ و دُیُوك و اَدْیاك: مرغ، مرغا، دِیكُ الحبش: ترکی مرغ۔ دیك رومی: ترکی مرغ۔ وَزْنُ الدیك: کم وزن گھونسے باز (ہلکے وزن ۱۱۸ پونڈ کا)
الشُعالُ الدِیکی: کالی کھانسی۔

○ دِیکور: جمع دیکورات: سٹیج کی آرائش و زیبائش۔

○ دِیْماس و دِیماس و دَیْمُوس: جمع دَیامِیس: تہ خانہ، زمین دوز قلعہ، کال کوٹھڑی۔

○ دِیمُوطِیقی: مثالی (تحریر) عام لوگوں کی زبان کی۔

○ دِیمُقراطی و دِیموقراطی: جمہوری، جمہوریت کا حامی، جمہوریت پسند۔ دِیمُوقراطِیۃ و دِیمُقراطیۃ: جمہوریت، جمہوری رویہ یا اعتقاد۔

دیم دِیماغوجیا: سیاسی حالت جس میں اقتدار عوام کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا گیا ہو، جس کے نتیجہ میں ابتری پھیل جائے۔ لوگوں کو اشتعال دلانے کی سیاست (یونانی لفظ)

دان ۱- دانَ دَیْنًا ہٗ: کو قرض دینا۔ صفت فاعلی: دائن صفت مفعولی مَدِین و مَدْیُون ــ الرجلُ: قرض لینا، صفت دائن۔ دایَنَ مُدایَنَۃً ہٗ: ایک دوسرے کو قرض دینا۔ اَدانَ اِدانَۃً: قرض لینا۔ ــ ہٗ: کو قرض دینا۔ تَدَیَّنَ: قرض لینا۔ تَدایَنَ القومُ: ایک دوسرے سے قرض مانگنا، ادھار پر لین دین کرنا۔
اِدّان اِدِّیانًا: قرض لینا۔ ــ الشیءَ: کو ادھار خریدنا، قرض پر خریدنا۔ اِسْتَدانَ اِسْتِدانۃً: قرض لینا۔
الدَیْن: جمع دُیُون و اَدْیُن: مقررہ وقت تک ادھار، قرض کہا جاتا ہے۔ قَضٰی دینَہ: وہ مرگیا۔ الدِیْنَۃ: مقررہ وقت تک ادھار۔ کہا جاتا ہے۔ بِعتُہٗ بِدِینۃٍ: میں نے اسے مہلت سے خریدا۔ المُدان: مقروض۔ قرض دار۔ المِدْیان: جمع مَدایین: بہت قرض دینے یا لینے والا (اس میں مذکر و مونث یکساں ہیں)۔

۲- دانَ - دِیْنًا الرجلُ: عزت دار ہونا، ذلیل ہونا، اطاعت کرنا، نافرمانی کرنا۔ ــ ہٗ: کو غلام بنانا، ناپسندیدہ بات پر ابھارنا، ذلیل کرنا، کی خدمت کرنا۔ ــ دِینًا و دِیانۃً و تَدَیَّنَ بالنصرانیۃ: نصرانی دین قبول کرنا۔ دَیَّنَ ہٗ: کو مذہب اختیار کرنے دینا۔ الدِین: جمع اَدْیان: اطاعت، فرمانبرداری، نافرمانی، پرہیزگاری، دین، مذہب، ملت، سیرت، عادت، حالت، شان، جبر، قہر، غلبہ، کہا جاتا ہے۔ قومٌ دِینٌ: اطاعت شعار لوگ۔ الدَیِّن: دین دار، دین پر کاربند، دین کا پرستار۔ المَدِین: مونث مَدِینۃ: غلام، لونڈی کہتے ہیں۔ فلان مدین و مدینۃ: فلاں شخص کے پاس لونڈی غلام ہیں۔ الدِیْنَۃ: اطاعت، عادت، الدَیّان: غلبہ والا۔ الدِیانۃ: جمع دِیانات: دینداری، ملت و مذہب۔

۳- دانَ - دَیْنًا فلانًا: سے بدلہ لینا۔ ــ دِینًا فلانًا: پر احسان کرنا، کو سزا کا حکم دینا، کا مالک ہونا۔ دَیَّنَ ہٗ الشیءَ: کو کسی چیز کا مالک بنا دینا۔ دایَنَ مُدایَنَۃً ہٗ: کو فیصلہ کے لئے حاکم کی طرف لیجانا۔ الدِین: جمع اَدْیان: بدلہ، فیصلہ، حکومت، اقتدار، طاقت، تدبیر، محاسبہ، حساب۔ اسی سے ہے یومُ الدین یعنی یوم حساب۔ المَدِین: مونث مَدِینۃ: بدلہ دیا ہوا، جس سے حساب لیا گیا ہو۔ الدَیّان: اللہ تعالیٰ کا اسماء میں سے ہے۔ قاضی، حساب لینے والا، بدلہ دینے والا، حاکم الدَیْنُونۃ: قضا، حساب۔

۴- دینامو (فی): ڈینمو، جنریٹر۔ الدِینامی: چست، قوت عمل رکھنے والا، حرکی قوت کا، قوت آفرین۔ اس نظریہ کا ماننے والا کہ ذہن اور مادہ فطری قوتوں کی حرکت سے پیدا ہوئے ہیں۔ الدینامیت: ڈائنامائٹ (Dynamite) الدینامیہ: یہ نظریہ کہ ذہن اور مادہ فطری قوتوں کی حرکت سے پیدا ہوئے ہیں۔ (اصل جوہر قوت ہے) حرکی حالت۔ ایک فلسفی مذہب کہ مادی عناصر میں بعض قوتیں ہیں جن کا مرکب عمل جسموں کے امتداد اور خصائص کی تعیین کرتا ہے۔ ارسطو کا فلسفہ اثر آفرین تھا۔ عربی میں الفلسفۃ الوضعیۃ: سے پہچانا جاتا ہے۔ دِینامُومتر: ڈینمومیٹر۔ برقی قوت اور دوربین کی طاقت ناپنے کا آلہ (یونانی لفظ)۔

○ دانَ - دَیْنًا: قرض لینا، قرض دار ہونا، مقروض ہونا۔ ــ لہ ب: کا کے لئے مرہون منت ہونا۔ دان لہ بالشکر: کا ممنون ہونا۔ ــ لہ ب: کا کے لئے ممنون ہونا، مرہون منت ہونا۔ ــ ل: کی بات مان لینا، کے زیر اقتدار ہونا، کا فرمانبردار ہونا۔ ــ ہٗ: کو قرض دینا، ادھار دینا، کو غلام بنانا، مغلوب کرنا، زیر نگین کرنا، کو بدلہ دینا، معاوضہ دینا، کو سزا دینا، کے خلاف فیصلہ دینا۔ دایَنَ ہٗ: کا مقروض ہونا، قرض خواہ ہونا۔ دایَنَہٗ بمبلغ خمسۃ قروش: اس کا اس پر پانچ قروش کا دعوی تھا۔ اَدانَ ہٗ: کو قرض دینا، کو کوئی چیز ادھار دینا، کوئی چیز قرض پر فروخت کرنا، کو مجرم قرار دینا، مجرم ثابت کرنا۔ تَدَیَّنَ: مقروض ہونا۔ ــ ل: کا ہدف بننا۔ تداینوا بدین: ایک دوسرے سے قرض لینا، باہمی قرض کا معاہدہ کرنا۔ استدان: قرض لینا۔ دَیْن: جمع دُیُون: قرض مالی، حساس ذمہ داری، فرض، قرض، بار، بوجھ، ذمہ داری، دعوی، مالی دعوی۔ بالدَیْن: قرض پر۔ ربُّ الدَین: قرض خواہ۔ دُیُونُ الحرب: جنگی قرضے۔ دین مضمون: قرض جس کی ادائیگی کا ذمہ لیا گیا ہو۔ دین ممتاز: ترجیح و یا مراعات یافتہ قرض۔ دینٌ مُوَحَّد: مستحکم قرض۔ دَیْنُونۃ: فیصلہ، آخری فیصلہ۔ الدَیّان: اللہ تبارک و تعالیٰ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مَدِینَة جمع مَدَائِن و مُدُن: شہر۔ المدینة: مدینہ منورہ (سعودی عرب میں) اِدَانَة اثبات جرم، مجرم قرار دینا۔ صَدَرَ الحُکمُ بادانتِہ: اسے مجرم قرار دیا گیا۔ اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ استدانة قرض اٹھانا، لینا۔ دائِن قرض خواہ۔ مَدْیُون: مقروض، قرض دار، مرہون منت، مَدْیُونِیَة: قرض داری، احسان مندی، ممنونیت، مَدِین قرض دار، مقروض، مَدِین بالشکر ممنون۔ کَانَ مدیناً لِ: کا مقروض ہونا۔ مُدِین: قرض خواہ، قرض دینے والا۔ مُدَان: جسے مجرم قرار دیا گیا ہو، جس کو مجرم پایا گیا ہو۔ مجرم، ناکارہ قرار دیا گیا، رد کیا گیا، فیصلہ سنایا گیا۔ دَانَ ۔ ب: کو ماننا، تسلیم کرنا، کا اعتراف کرنا (خصوصاً مذہب، عقیدہ وغیرہ) دان بالاسلام: اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دان بِعَادَاتِہ: اپنے رواجوں سے وابستہ رہنا۔ تَدَیَّن ب: مذہب وغیرہ قبول کرنا، ماننا، تسلیم کرنا، دِین جمع ادیان: دین، مذہب، یقین، عقیدہ، اعتقاد، ایمان۔ یوم الدین: فیصلہ کا دن، دِینِی: دینی، مذہبی، روحانی، لادینی: بے دین۔ العلم الدینی: دینی علم۔

دَیِّن: نیک، دینی، مذہبی، خدا پرست، بہت دیندار، پرخلوص سچا۔ دِیَانَة: جمع دِیَانَات: مذہب، مذہبی اخوت، ہم مذہبی، عقیدہ۔ فرقہ، گروہ۔ دَیَّان: نیک، خدا پرست، بہت دیندار، مذہبی، دینی، سچا مخلص۔ تَدَیُّن: پارسائی، زہد و اتقا، خدا ترسی، خدا پرستی، صدق اخلاص، مذہبیت۔ مُتَدَیِّن: نیک، خدا پرست، بہت دیندار، سچا مخلص، مذہبی۔ مُتَدَیِّنَة: مذہبی فرقہ یا گروہ یا بھائی چارہ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ذ

۔ بلفظ ذال حروف تہجی کا نوواں صرف ہے اور ابجد کے حروف میں ۷۰۰ کے برابر ہے۔

ذ اسم اشارہ قریب کے لئے۔ تثنیہ ذان بحالت رفعی و ذین نصب اور جری حالت میں اسکی جمع اولاء۔ تصغیر شاذ ذیّا ہے۔ تنبیہ کی ھ داخل ہونے پر کہا جاتا ہے۔ ھذا۔ ذ الذی کے معنی میں ہوتا ہے بشرطیکہ ماو مَن استفھامیہ کے بعد واقع ہو اور اشارہ کے لئے نہ ہو۔ جیسے ماذا فعلت: تم نے کیا کیا؟ ومَن ذا فی الدار: گھر میں کون ہے۔ اسم استفھام کے ساتھ بھی آتا ہے جیسا لماذا ترکتنا: تو نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟

ذاك اسم اشارہ متوسط کے لئے۔ تنبیہ کی ھا کے ساتھ آپ کہتے ہیں۔ ھذاك تصغیر۔ ذیّاك اور تثنیہ ذانِك بحالت رفعی و ذینك نصبی و جری حالت میں۔ اس کی جمع بھی اولائك ہے۔ ذٰلِك اسم اشارہ بعید کے لئے ہے۔ تثنیہ ذانّك جمع اُولائك اور تصغیر ذیّالِك۔

ذا جمع اولاء یہ، یہ ایک۔ بذا اس سے، اس کے ذریعے، اس ذریعے سے، اس طرح، یوں۔ لذا اس لئے۔ کَذا ایسے، اس طرح، اسی طرح، یوں، اس حد تک، اتنا، فلاں۔ ھٰکذا یوں، اس طرح۔ ماذا کیا۔ لِماذا کیوں۔ ھو ذا وہ ایک ھِی ذی وہ ایک، اس ایک کی طرف دیکھو، کیوں، یعنی، اب اگر ایسا نہیں۔ ھاءَنذا دیکھو، یہ میں ہوں، یہاں میں ہی ہوں جمع ھانحنُ اُولاء دیکھو یہ ہم ہیں، یہاں ہم ہی ہیں۔ ذو کا مالک یا قابض، رکھنے والا (بحالت رفعی) ذی بحالت جری۔ ذاكَ مونث ۔ تاكَ، تیكَ جمع اُولئك یہ، یہ ایک۔ اِذذاك تب، اس وقت، ان دنوں۔ ذٰلِكَ مونث تِلْكَ جمع اولائك وہ، وہ ایک۔ بذلك اس سے، اس ذریعے سے اس طرح۔ لذلك اسلئے۔ بَعْدَ ذلك اس کے بعد، اس پر۔ بعد ازاں، پھر، اس کے بعد، اس وجہ سے، اس لئے، چنانچہ۔ مع ذلك تاہم، پھر بھی، بایں ہمہ، اس کے باوجود، اس کے باوصف۔ و ذلك یعنی ، ذلك لاَنَّ اس کی وجہ یہ ہے کہ، اس ایک وجہ سے کہ۔ ذلك بأنَّ اس حقیقت کی وجہ سے کہ۔ کذلك یوں، اس طرح، یکساں، اسی انداز سے بھی، نیز ذٰلِکُم مونث تِلْکُمْ جمع اُولٰئِکُمْ وہ ایک۔ (ذلک کی جمع) ھٰذا مونث ھٰذِہٖ ھٰذی جمع ھٰؤلاء تثنیہ ھذان مونث ھاتان یہ، یہ ایک۔

ذاب ۱۔ ذَأَبَ ۔ذَأْباً الدابّةَ جانورکو ہانکنا۔۔۔ فی السیر جلدی چلنا۔

۲۔ ذَأَبَ ۔ذَأْباً الشَیْءَ کو جمع کرنا۔ الغلام لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَأَّبَ و اَذْأَبَ الغلام لڑکے کی زلفیں بنانا۔ الذؤابة، جمع ذوائب زلف، گیسو، بالوں کی لٹ، لڑ۔ (دھمکی میں کہا جاتا ہے لأَفتُکَنَّ فی ذُوَابتك میں تجھے ذلیل کروں گا)۔ پیشانی کے بال، تلوار کی (چمڑے کی) پٹی۔۔۔ کلِّ شیْءٍ ہر شے کا بلند حصہ۔ اس سے ہے۔ ھو ذُؤَابةُ قومِہٖ وہ اپنی قوم کا پیشوا ہے۔ علوتُ ذؤابةَ الجبل: میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا۔۔۔ الرَّحْلِ کجاوہ کے آخر میں لگی ہوئی کھال۔۔۔ النعلِ جوتے کا کٹا ہوا وہ تسمہ جو زمین پر قدم کے نیچے آئے۔ الذِنْبان: اونٹ کی گردن کے بال، ہونٹ کے بال، کاٹنے کے بعد بچی ہوئی اون۔

۳۔ ذَأَبَ ۔ذَأْباً الرجلَ بہت زور سے آواز نکالنا۔ ہٗ کو خوف دلانا، دھتکارنا، کی مذمت کرنا۔۔۔ تہُ الریحُ کو ہوا کا چاروں طرف سے لگنا۔ ذَئِبَ ۔ذَأَباً و ذَؤُبَ ۔ذَآبَۃً مکاری اور خباثت میں بھیڑے کی طرح ہونا، بھیڑے سے ڈرنا۔ ذُئِبَ بھیڑے سے ڈرنا، بھیڑے کا بکریوں میں گھس جانا۔ ذَأَّبَ ہٗ کو خوف دلانا۔ اَذْأَبَ بھیڑے سے خوف زدہ ہونا۔۔۔ ت الارضُ زمین کا بہت بھیڑیوں والی ہونا۔ تذأَّبَ شرارت اور مکاری میں بھیڑے کی طرح ہونا۔ الشیءَ کو باری باری سے لینا۔ و تذاءَبَ لِلْناقة اونٹنی کو دوسرے بچہ پر مہربان بنانے کے لئے بھیڑے جیسا بن کر چھپنا۔ تہُ الجنُّ کو جن کا ڈرانا۔ تہُ الریحُ کے پاس ہوا کا چاروں طرف سے آنا۔ تِ الریحُ علیہ پر ہوا کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح چلنا۔ اِسْتَذْأَبَ اِسْتِذْآباً بھیڑے کی طرح ہونا۔ الذِئبُ جمع ذِئاب و أَذْؤُب و ذُؤْبان اور الذِیْب بھی۔ (ح) بھیڑیا۔ داءُ الذِئب بھوک۔ ذُؤْبان العرب عرب کے چور اور فقیر لوگ۔ الذِئبة بھیڑے کی مادہ۔ ارضٌ مَذْأَبَة بہت بھیڑیوں والی زمین۔

۵۔ الذأَب نحش۔ الذئبة (طب) جانوروں کے حلق کی ایک بیماری، کجاوہ اور زین کے ہر دو جانب کے درمیان کی فراخی۔

○ اِسْتَذْأَبَ بھیڑے جیسا ہونا، بھیڑے جیسا درندہ صفت اور سفاک ہونا۔ ذِئْب جمع ذِئاب و ذُؤْبان گیدڑ، بھیڑیا، گرگ۔ مرض الذئب الاحمر ایک غیر متعدی جلدی بیماری۔ ذُؤَابة جمع ذوائب بالوں کی لٹ، کاکل، زلف، لڑ، گھاس کا چھوٹا سا مٹھا۔

ذئر ۱۔ ذَئِرَ ۔ذَأَراً غضبناک ہونا۔ عنہ سے ڈرنا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گھبرانا،نفرت کرنا،پرناک چڑھانا،صفت۔ ذِئر و
ذائِر ۔ و ذائر علیہ پر جرأت کرنا،دلیری کرنا۔ ت
المرأۃُ علی زوجِها عورت کا اپنے شوہر کا نافرمان
ہونا،اسکی اطاعت سے باہر ہونا۔صفت۔ ذائِر و ذئِر
و ذِئرۃ و مُذائِر اَذأرَہٗ کو غضبناک کرنا،ناراض کرنا،
جرأت دلانا،اکسانا۔ ہٗ الی کذا کو پر مجبور کرنا،
مضطر کرنا۔ ہٗ بصاحبِہٖ کو اس کے ساتھی کا مخالف بنانا۔
۲۔ ذَئِر ۔ذَأَرًا بالشیءِ کا عادی ہونا خوگر ہونا۔
ذأط: ذَأَطَ ۔ذَأْطًا ہٗ کو ذبح کرنا،کا گلا گھونٹنا یہاں تک
کہ اسکی زبان باہر نکل آئے۔ الاناءَ برتن کو بھرنا۔
الاناءُ برتن کا بھرنا۔
ذاف: ذَأَفَ ۔ذَأْفًا مرنا۔ ذَأْفًا و ذَأَفًا و اَذْأَفَ
علی الاسیرِ وہٗ قیدی کو یا کسی کو فوراً مار ڈالنا۔
اِنْذأف دل کا کٹ جانا اور مرجانا۔ موتٌ ذُؤَاف
اچانک موت۔ سمٌّ ذُؤَاف زہر قاتل۔ الذَأْفان
موت۔ و الذِئفان و الذُؤْفان و الذَیْفان و الذَیَفان:
زہر قاتل۔
ذال: ذَأَلَ ۔ذَأْلًا و ذَأَلانًا آہستہ آہستہ ناز سے چلنا۔
تذاءَل ذلیل بننا،چھوٹا بننا۔ ذُؤالۃ جمع ذُؤْلان و
ذِئلان بھیڑیے کا علم جنس۔ الذَأَلان و الذُؤْلان:
(ح) بھیڑیا،گیدڑ۔ المِذْأَل سبک و تیز رو۔
ذال حرف ذ کا نام۔
ذام: ذَأَمَ ۔ذَأْمًا ہٗ: پر عیب لگانا،کو رسوا کرنا،کی تحقیر کرنا،کو
دھتکارنا۔ اَذْأَمَ اِذْآمًا ہٗ علی کذا کو پر مجبور کرنا۔
الذَأْم و الذام عیب،ضرب المثل ہے۔قد لا تُعْدَمُ
الحسناءُ ذامًا کبھی خوبصورت عورت بھی عیب سے
پاک نہیں ہوتی۔ الذأمہ کلمہ کہا جاتا ہے۔ ماسمعتُ
لہ ذأمۃً میں نے اس کا کوئی کلمہ (قول) نہیں سنا۔
ذب: ا۔ ذَبَّ ۔ذَبًّا عنہ کو سے روکنا،کی سے حمایت
کرنا۔ الذَبّاب و المِذَبّ اپنے اہل اور قوم کا
دفاع کرنے والا،اہل و قوم کی حمایت کرنے والا۔
۲۔ ذَبَّ ِ ذَبًّا و ذَبَبًا و ذُبوبًا گرمی یا پیاس سے خشک
ہونا۔ النبتُ پودہ کا مرجھانا۔ جسمُہٗ کا جسم لاغر
ہونا۔ ذَبَّبَ ت تَذْبیبًا شفتُہٗ کے ہونٹوں کا پیاس
وغیرہ کی وجہ سے خشک ہونا۔ النہارُ دن کا تھوڑا حصہ
باقی رہ جانا۔ الذَبّان پیاس وغیرہ سے مرجھایا ہوا۔
ذُبابۃُ الشیءِ چیز کا بقیہ۔
۳۔ ذُبَّ البعیرُ او الرجلُ اونٹ یا آدمی کا پاگل ہونا۔
الذُباب جنون۔
۴۔ ذُبَّ الفرسُ گھوڑے کے نتھنے میں مکھی کا گھس جانا۔
صفت۔ مَذْبوب۔ ذَبَّبَ تَذْبیبًا بہت دفع کرنا۔

اَذَبَّ المکانُ جگہ کا بہت مکھیوں والی ہونا۔صفت۔
مَذْبوب و مُذِبّ۔ الذَبّ: بہت حرکت کرنے والا۔
جنگلی بیل۔ الاَذَبّ جنگلی بیل۔ الذُباب جمع اَذِبّۃ و
ذِبّان و ذُبّ واحد ذُبابۃ (ح) مکھی،نیز بھڑ،شہد کی
مکھی،مچھر (پر بھی اطلاق ہوتا ہے)۔ المِذَبّۃ جمع
مِذَبّات و مَذاب مورچھل،چنوری کہتے ہیں۔
اذنابُها مَذابُّها جانوروں کی دمیں انکی چنوریاں ہیں۔
ارضٌ ذَبوبۃ و مَذْبوبۃ بہت مکھیوں والی زمین۔
۵۔ الاَذَبّ لمبا،اونٹ کی کچلی۔ الذُباب طاعون،تپ
دق،بدقسمتی،ہمیشہ رہنے والی بیماری۔ ذُبابُ السیف
تلوار کی دھار۔ العین آنکھ کی تپلی کہا جاتا ہے۔ھو
اعزمن ذُباب العین وہ آنکھ کی تپلی سے زیادہ عزیز
ہے۔ عطشٌ مُذَبِّب بہت سخت پیاس۔ راکبٌ
مُذَبِّب اکیلا تیز رفتار سوار۔
۶۔ ذَبْذَبَ الشیءُ المعلَّقُ فی الھواءِ ہوا میں لٹکی
ہوئی چیز کا ہلنا،حرکت کرنا۔ الشیءَ: کو ہلانا،حرکت
دینا۔ تَذَبْذَبَ متحرک ہونا۔ الذَبْذَبۃ جمع ذَباذِب
زبان،ہوا میں ہلنے والی چیز،پالکی میں آرائش کے لئے
لٹکائی جانے والی چیزیں۔ الذَباذِب لباس کا سنجاف
یا پھندے۔
۷۔ ذَبْذَبَ اھلَہ اپنے اہل کی حمایت کرنا۔ الخلقَ
مخلوق کو ایذا دینا۔
۸۔ ذَبْذَبَ الرجلُ متردد و حیران ہونا۔ ہٗ کو متردد
و حیران چھوڑنا۔ تَذَبْذَبَ دو باتوں میں پس و پیش
کرنا۔ المُذَبْذِب پس و پیش کرنے والا۔
○ ذَبَّ ُ ہٗ کو نکال دینا۔ عن کا دفاع کرنا۔ ذُباب
واحد ذُبابۃ جمع اَذِبّۃ و ذِبّان مکھیاں۔ ذُبابٌ
قارِض بڑ مکھی۔ ذُبابۃ جمع ذُبابات مکھی،تلوار
کی نوک۔ ذُبّانۃ و ذِبّانۃ مکھی (جس سے نشانہ لگانے
میں مدد لی جاتی ہے)۔ مِذَبّۃ مورچھل۔
○ ذَبْذَبَ ہٗ کو ہلانا،لہرانا،جھلانا،لٹکانا۔ تَذَبْذَبَ
ہلنا،ڈولنا،جھولنا،ڈانواں ڈول ہونا،آگے پیچھے حرکت
کرنا،ہلنا،مڑنا،مرتعش ہونا،بدلتے رہنا،مقناطیسی سوئی
کا مرکزی نقطہ سے منحرف ہونا،ادھر ادھر ہلنا،تھرتھرانا،
پس و پیش کرنا،ڈگمگانا،مذبذب ہونا،تذبذب میں
پڑنا،متامل ہونا،تامل کرنا،ہچکچانا۔ ذَبْذَبۃ جمع ذبذبات
ہلتی جلتی حرکت،لٹکتے ہوئے ہلنا،جھولنا،ڈانواں ڈول
ہونا،پنڈولم کی طرح ہلنا۔ آگے پیچھے حرکت کرنا،
ارتعاش،اہتزازی حرکت۔ تَذَبْذُب پنڈولم کی طرح
حرکت،لٹکتے ہوئے ہلنا،ہلنا،جھولنا،آگے پیچھے حرکت،
مرکزی نقطہ سے انحراف (مقناطیسی سوئی کا)۔ مُتَذَبْذِب

جھولنے والا۔ مُذَبْذَب گھٹنے بڑھنے والا،بدلتے
رہنے والا،اترنے چڑھنے والا۔ بدلنے والا،تغیر پذیر،
جھولنے والا،پس و پیش کرنے والا،مذبذب،بار بار
رائے بدلنے والا۔ ڈگمگانے والا ہچکچانے والا۔
ذبح: ا۔ ذَبَحَ ۔ذَبْحًا و ذُباحًا و ذَبَحانًا ہٗ کو پھاڑنا،ذبح
کرنا،کا گلا گھونٹنا۔ الدَنَّ مٹکے میں سوراخ کرنا۔
ذَبَّحَ القومَ لوگوں کو ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا۔
اِذَّبَحَ ذبح چننا،ذبح کے لئے جانور لینا۔ تذابَحوا
ایک دوسرے کو ذبح کرنا۔ الذِبْح ذبح شدہ،مقتول۔
الذابِح (فا): داغ لگانے کا آلہ جس سے گردن کے وسط
میں داغ لگائیں۔ الذَبیح ذبح کیا ہوا،قابل ذبح
برائے قربانی۔ المِذْبَح جمع مَذابِح ذبح کرنے کا
اوزار۔ المَذْبَح جمع مَذابِح ذبح کرنے کی جگہ۔
مذابِحُ الکنائِس گرجا کی قربان گاہیں۔ الذُباح
و الذُبّاح و الذِباح و الذُبْحہ و الذِبْحہ و الذُبَحۃ
و الذِبَحۃ (طب) حلق کا درد۔ الذَبیحۃ جمع
ذَبائِح ذبح کا مونث،ذبح کیا جانے والا جانور۔
۲۔ الذِبَح و الذُبَح (ن) سانپ کی چھتری کی ایک
قسم۔
○ ذَبَحَ ۔ذَبْحًا ذبح کرنا،گلا کاٹنا،چھری پھیرنا،قتل
عام کرنا،قتل کرنا،مار ڈالنا۔ ھ جانور کی قربانی دینا،
قربانی کرنا،بھینٹ چڑھانا۔ ذَبَّحَ مارنا،قتل کرنا،
ذبح کرنا،گلا کاٹنا،چھری پھیرنا،قتل عام کرنا۔ ذَبْح
ذبح،ذبح کرنا،جانوروں کو ذبح کرنا،قتل عام،خونریزی،
کشت و خون۔ ذِبْح قربانی کا جانور،چڑھاوے یا نیاز
کا جانور،خونی قربانی۔ ذِبْحۃ و ذُبْحۃ دل کی بیماری۔
خناق۔ الذبحۃ الصَدْرِیۃ صدری مرض۔ الذبحۃ
الفؤادیۃ دل کی بیماری۔ ذبّاح ذبح کرنے والا،
مارنے والا،قتل کرنے والا،قاتل،قصائی،قصاب۔
ذبیح ذبح کیا ہوا۔ ذبیحۃ جمع ذبائح ذبح کیا
جانے والا جانور،قربانی کا جانور،خونی قربانی،قربانی،
بلیدان،چڑھاوا،نذر،نذرانہ،مذہبی کاموں کے لئے
عطیہ۔ مَذْبَح جمع مَذابِح ذبح خانہ،قربان گاہ،نذر
نیاز چڑھانے کا چبوترہ۔ مَذْبَحۃ قتل عام،قتل و غارت،
خونریزی،کشت و خون،خون خرابہ۔
ذبر: ا۔ ذَبَرَ ۔ذَبْرًا الکتابَ: کتاب لکھنا،کتاب پر
نقطے لگانا۔ ذَبَّرَ الکتابَ: کتاب لکھنا،کتاب پر نقطے
لگانا۔ الذِبْر (مص) جمع ذُبُور کتاب۔
المِذْبَر قلم۔
۲۔ ذَبَرَ ِ ذَبْرًا الکتابَ کتاب کو جلدی پڑھنا۔
الشیءَ کو جاننا،اچھی طرح سمجھنا۔ ذَبْرًا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وَذَبارَۃً اچھی طرح دیکھنا۔ ـــــ الشِعرَ شعر پڑھنا۔ الخبرَ خبر کو سمجھنا۔

۳۔ دبر - ذَبراً علیہ پر غصہ ہونا۔

ذبل ا۔ ذَبَل و ذَبُل - ذُبُولاً و ذَبْلاً النباتُ پودے کا مرجھانا۔ الفرسُ گھوڑے کا لاغر ہونا۔ لسانُہٗ او شفتُہٗ کی زبان یا ہونٹ کا خشک ہونا کہا جاتا ہے۔ ذبلَتْہُ ذبُولٌ اس کو مصیبت پہنچی۔ اَذْبَلَ النباتَ او الفرسَ پودے کو پژمردہ کرنا یا گھوڑے کو لاغر کرنا۔ الذَبل گشدگی۔ الذُبلہ پیاس سے ہونٹوں کا خشک ہونا۔ الذبلہ بیتگی۔ الذابل (فا) جمع ذُبَّل و ذُبْل باریک، دُبلا۔ الذابلۃ جمع ذوابل ذابل کا مونث۔ عینٌ ذابلۃٌ نیم باز آنکھ، مستانہ آنکھ۔ الذوابل نیزوں کی صفت بن کر آتا ہے کہتے ہیں۔ الرماحُ الذوابلُ باریک نیزے، خود نیزوں کو بھی ذوابل کہا جاتا ہے۔ الذُبالہ و الذُبّالہ جمع ذُبال بتی۔

۲۔ تَذَبَّلَ فی المشی مٹک کر چلنا، ناز سے چلنا۔ الذَبْل آغاز جوانی، کچھوے کے پیٹھ کی ہڈی۔

○ ذَبَلَ و ذَبُلَ ذَبْلاً و ذُبُولاً مرجھا جانا، پژمردہ ہونا، سوکھنا، خشک ہونا، زرد ہو جانا، کا رنگ پھیکا پڑ جانا، دبلا اور کمزور ہو جانا، کند ذہن ہو جانا، آنکھ کا چمک دمک کھو دینا۔ ذَبْل مختلف رنگوں میں پایا جانے والا سخت، ہموار اور چمکدار مادہ جو بعض صدفوں کے کھپروں میں تہہ بناتا ہے، بٹن اور زیورات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ذُبالۃ بتی۔ ذابل جمع ذُبَّل مرجھایا ہوا، پژمردہ، خشک، پھیکا یا اڑا ہوا، یا زرد ہو جانے والا (رنگ)، نڈھال، سست رفتار، کند ذہن، غبی، بے نور، کمزور، پژمردہ (اچٹتی نظر) کمزور، تھکا ہوا۔

دج ذَجَّ - ذَجًّا سفر سے آنا۔ الماءَ پانی پینا۔

دجل ذَجَلَ - ذَجْلاً ہٗ پر ظلم کرنا۔

ذح ا۔ ذَحَّ - ذَحًّاہٗ کو تھپیڑ مارنا۔ ـــــ الحطبَ لکڑی پھاڑنا۔ الفلفلَ مرچ کوٹنا۔

۲۔ ذَحْذَحَ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیز چلنا۔ ـــ ت الریحُ الترابَ ہوا کا مٹی اڑانا۔

دحج ذَحَجَ - ذَحْجاً ہٗ کو چھیلنا، حرکت دینا۔ ـــ تہٗ الریحُ کو ہوا کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ ـــ ت المرأۃ بولدھا عورت کا بچہ جننا۔

دحل الذَحْل جمع ذُحُول و اَذْحال خون کا بدلہ (آپ کہتے ہیں لی عندھم ذُحُول میرے ان کے ہاں کئی خون کے بدلے ہیں) دشمنی، کینہ۔

○ ذَحْل جمع اَذحال و ذُحُول بیر، غصہ، آزردگی، ناراضگی، خفگی، بغض، کینہ، عناد، عداوت، دشمنی، نفرت، جذبہ انتقام، انتقام جوئی، کینہ دری، کینہ پروری، انتقام کا متلاشی ہونا، خون کا بدلہ۔

ذحی ذَحَی - ذَحْیاً الصوفَ اون کوٹنا، دھننا۔ ـــ ت الریحُ القومَ قوم کو کھلی ہوا لگنا۔ المَذْحاۃ جمع مَذاحٍ زمین جس پر درخت نہ ہوں۔

ذخر ا۔ ذَخَرَ - ذَخْراً الشیءَ کو ضرورت کے وقت کے لئے ذخیرہ کرنا، کو دنیا یا آخرت کے لئے تیار کرنا۔ اِذَّخَرَ و اِدَّخَرَ ضرورت کے وقت کے لئے ذخیرہ کرنا۔ الذُخر جمع اَذْخار: ذَخَرَ کا اسم، ذخیرہ، وہ شے جس کا ذخیرہ کیا جائے۔ الذاخِر (فا) موٹا، فربہ۔ الذخیر (اع) آتشی اسلحہ میں رکھا جانے والا بارود۔ الذخیرۃ جمع ذخائر ذخیرہ، خزانہ۔ ذخائر القدیسین مسیحی اولیاء کے ذخیرے۔ ذخائر الحرب جنگ کے ذخائر، گولہ بارود اور فوجی سامان کہتے ہیں۔ اعمال المومنین ذخائر عند اللّٰہ مومنین کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے نیک اعمال اپنی آخرت کے لئے تیار کر رکھے ہیں) گردن کا زیور جس کے اندر مقدس آثار کی کوئی چیز ہو تبرک کے لئے۔ المُذْخِر (اع) فوج کو گولہ بارود فراہم کرنے والا، فوجی سامان مہیا کرنے والا۔ المَذْخَر جمع مَذاخِر ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ المَذاخِر جوف (جمع) انتڑیاں، رگیں، پیٹ کے نچلے حصے۔ الإذْخِر واحد اِذخِرۃ جمع اَذاخِر (ن): ایک قسم کی خوشبودار نبات، سبز گھاس۔

○ ذَخَرَ - ذَخْراً ہ کو اپنے پاس رکھنا، کو محفوظ کرنا، کا ذخیرہ کرنا، بچا کر رکھنا، بچانا، ضرورت کے لئے بچانا، برے وقت کے لئے بچا کر رکھنا، آڑے وقت کے لئے بچانا۔ اِذَّخَرَ ہ کو اپنے پاس رکھنا، محفوظ رکھنا، ذخیرہ کرنا، کو بچا کر رکھنا، کو جمع کرنا، مستقبل کے لئے جمع کرنا، حفاظت کے لئے رکھنا، سینت سینت کر رکھنا، کا ڈھیر لگانا، اکٹھا کرنا، آڑے یا برے وقت کے لئے بچا کر رکھنا، بچانا۔ اِذَّخَرَ حُبّاً لِ: کے لئے محبت دل میں رکھنا۔ لا یدخر جھداً: کسی کوشش سے دریغ نہ کرنا۔ ذُخر جمع اَذْخار سٹور کی ہوئی چیز، ذخیرہ کی ہوئی چیز، جمع کی ہوئی یا ڈھیر لگائی ہوئی چیزیں، رسد، خزانہ۔ ذَخیرۃ جمع ذخائر خزانہ، رسد، ذخیرہ، سٹور، خوراک، اشیائے خوردنی، گولہ بارود، فوجی سامان (مقدس) تبرک، یادگار۔ اِدِّخار جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، سینت سینت کر رکھنا، ڈھیر لگانا، ڈھیر، مستقبل کے لئے جمع کرنا، حفاظت کے لئے رکھنا، بچانا، اکٹھا کرنا۔ مُذَخِّر جمع مُذَخِّرون معاون توپچی۔ گولہ بارود فراہم کرنے والا۔ مُذَخَّر جمع مُذَخَّرات رسد، بہم پہنچائی ہوئی چیز۔ مُدَّخَرۃ جمع مُدَّخَرات برقی مخزن، مخزن برق، برقی ذخیرہ۔ Storage battery بیٹری، توپ خانہ، برقی مورچہ۔

ذر: ذَرْ بمعنی دَعْ چھوڑ، چھوڑ دے۔ دیکھو وذر۔

ذرّ: ا۔ ذَرَّ - ذَرًّا الملحَ: نمک چھڑکنا۔ ـــ الحَبَّ فی الارض: زمین میں دانہ بونا۔ ـــ تِ الارضُ النباتَ: زمین کا نباتات اگانا۔ ذَرًّا و ذُرُوراً القرنُ او النباتُ سینگ یا سبزہ کا پھوٹنا۔ ـــ تِ الشمسُ آفتاب کا طلوع ہونا، سورج کا نکلنا۔ الرجلُ مرد کے سر کے اگلے حصہ کا سفید ہونا۔ الذَرّ ہوا میں منتشر غبار، چھوٹی چیونٹیاں، کرمک، نسل۔ الذَرّۃ: الذَرّ کا واحد۔ جمع ذَرّات ذرہ، انتہائی چھوٹا جزء۔ اسے الجوھر الفرد یا ایٹم Atom بھی کہا جاتا ہے۔ من الجسم البسیط (ک) جسم بسیط کا سب سے چھوٹا جزء جو کیمیائی عملوں کے قابل ہو۔ عام خیال تھا کہ ذرہ مطلقاً تقسیم نہیں ہوتا، جدید سائنس نے اسے پھاڑ ڈالا۔ ریڈیم جیسے چمکدار اجسام میں بھی اس کی تقسیم دیکھی گئی ہے۔ ذرہ مرکزی حصہ سے بنا ہوا ہے جس کے گرد برقیے گردش کرتے رہتے ہیں ان برقیوں کی تعداد جسم کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ الذَرور جمع اَذِرّۃ: آنکھ یا زخم میں چھڑکنے کی دواء، عطر۔ الذَرّی: تلوار کا جوہر۔ ذُرّیّۃُ الرجلِ (بتثلیث الذال) جمع الذَراری و الذُرّیات: اولاد، نسل، بعض کے نزدیک اس کی اصل الذر بمعنی تفریق ہے۔ القنبلۃ الذَرّیّۃ (اع): ایٹم بم۔ الأَسلِحَۃُ الذَرّیّۃ (اع) وہ اسلحہ جن سے ایٹم بم چلایا جاتا ہے۔ الذَرّاۃ ذرور خوشبو سے جو چھڑکے۔ الذَریرۃ: ایک قسم کی خوشبو۔ المِذَرّۃ: غلہ وغیرہ بکھیرنے یا چھڑکنے کا آلہ۔

۲۔ ذَرَّ - ذَرًّا و ذُرُوراً اللحمَ: گوشت کا سکڑنا۔

۳۔ الذِرار: غضب، غصہ۔

۴۔ فر ذر الملحَ او الحبَّ: نمک یا دانہ چھڑکنا، بکھیرنا، بونا۔ الذَرذار: باتونی، بکواسی۔

○ ذَرَّ - ذَرًّا ہ کو بکھیرنا، پھیلانا، چھڑکنا۔ ـــ ہ ب پر کوئی چیز چھڑکنا، پر کے چھینٹے ڈالنا۔ ذَرَّ الرمادَ فی عینَیہِ: کی آنکھوں میں دھول ڈالنا۔ ـــ ذُرُوراً (سورج کا) طلوع ہونا، نکلنا، افق پر روشن ہونا۔ ذَرَّ قَرنُہٗ: نکلنا، ابھرنا، ظاہر ہونا، دکھائی دینے لگنا۔ ذَرّ چھڑکنا، بکھیرنا، پھیلانا، چھینٹے ڈالنا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ذرات، انتشر ذرے، چھینٹیں اڑ گئے ریزے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ذَرَّة جمع ذَرَّات ذرہ، ایٹم، چھوٹا ذرہ ٹکڑا، چھینٹا، دھبہ، ریزہ۔ مِثْقَال ذَرَّة ذرہ جتنا، ذرہ بھر، چھوٹا ٹکڑا، ریزہ، پارہ، مقدار۔ ذَرَّة تھوڑا سا، ذرہ بھر، ریزہ بھر، تل بھر، خفیف مقدار۔ ذرَّة من شكٍّ ذرا سا شک۔ ذَرِّی ایٹمی۔ قُنْبُلَة ذَرِّيَة ایٹم بم۔ النشاط الذَرِّیُّ وطاقةٌ ذَرِّيَةٌ ایٹمی طاقت۔ ذُرُور پاؤڈر، سفوف۔ ذُرُوْرِیّ سفوف بنا ہوا، سفوف سا، پسا ہوا، جس کو با آسانی سفوف بنایا جا سکے۔ ریزہ ریزہ کیا ہوا۔ ذَرِيرَة جمع ذَرائِر خوشبودار پاؤڈر، مہکیلا پاؤڈر۔ معطر غازہ یا ابٹن۔

ذُرِّی نسلی، اولاد کا، اولاد کے متعلق۔ ذُرِّیة جمع ذُرِّیات و ذَرارِی نسل، آل، اولاد، خلف، بچہ بچے۔

ذرأ ا۔ ذرأ ۔ذَرْأً اللّٰهُ الخلقَ اللہ تعالیٰ کا مخلوق پیدا کرنا۔ الشیءَ چیز کو زیادہ کرنا۔ ـــ الارضَ زمین میں کچھ بونا۔ و ذَرِئَ ۔ذَرَأً شَعْرُهٗ بالوں کا بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہونا۔ صفت۔ أَذْرَأُ مونث ذَرْءَاء: أَذْرَأَ إِذْرَاءً الدمعَ آنسو بہانا۔ الذَرْءُ تھوڑی سی چیز کہا جاتا ہے۔ يَكْفِينِي ذَرْءٌ من خيرٍ مجھے تھوڑی سی نیکی کافی ہے۔ الذَرِی بکھیری یا بوئی ہوئی، حال ہی میں بیج بوئی ہوئی زمین۔ الذُرْأَة کنپٹی پر ظاہر ہونے والی بڑھاپے کی ابتدائی سفیدی۔

۲۔ أَذْرَأَ اِذْرَاءً تِ الناقةُ اونٹنی کا دودھ اتارنا۔ ــ هٗ کو غضبناک کرنا، ڈرانا۔ ــ هٗ بالشیءِ کو کسی چیز کا حریص یا شوقین بنانا۔ ــ هٗ إلی كذا کو پر مجبور کرنا۔ مُذْرِئ دودھ اتارنے والی اونٹنی۔

ذرب: ا۔ ذَرِبَ ۔ذَرَبًا و ذَرَابَةً و ذُرُوْبَةً السیفُ تلوار کا تیز ہونا صفت۔ ذَرِبٌ جمع ذُرُب۔ ــ الرجلُ آدمی کا عجز کے بعد فصیح ہونا۔ ذَرَبَ ۔ذَرْبًا و ذَرَّبَ و أَذْرَبَ السیفَ تلوار کو تیز کرنا۔ رجلٌ ذِرْبٌ زبان دراز آدمی۔ الذَرِب جمع ذُرُب موچی کی رامی۔ ذَرِبُ اللسان: تیز زبان والا۔ لِسانٌ ذَرِبٌ فصیح زبان۔ سیفٌ ذَرِبٌ زہر میں بجھو کر تیز کی ہوئی تلوار۔ الذُرَاب: زہر۔ المِذْرَب: زبان۔

۲۔ ذَرِبَ ۔ذَرَبًا و ذَرَابَةً و ذُرُوْبَةً الجرحُ زخم کا خراب ہو کر پھیل جانا۔ ــــ تِ المعدةُ معدہ کا خراب ہونا، ٹھیک ہونا (ضد) أَذْرَبَ الرجلُ: تنگ گزارہ والا ہونا۔ الذَرَب جمع أَذْرَاب لاعلاج بیماری، زنگ، زبان کی خرابی۔ لِسانٌ ذَرِبٌ فحش گو زبان۔ الذِرْب (طب) جگر کی ایک بیماری گردن کا غدود۔ الذِرْبَة جمع ذِرَب غدود، تیز و بدزبان عورت۔ الذَرَبِی عیب۔ الذِرْبِیّ مصیبت۔

۲۔ الأَذْرَبِیّ اذربیجان کی طرف خلاف قیاس نسبت، اذربیجانی، آذربیجان کا۔

ک ذَرِبَ ۔ذَرَبًا تیز ہونا، قاطع ہونا۔

ذَرَب اسہال تخمہ، دست کی بیماری۔

ذَرِب جمع ذُرُب تیز، قاطع۔ خُـرْجٌ ذرب لاعلاج زخم۔ متعدی یا سمی زخم۔

ذرح: ا۔ ذَرَحَ ۔ذَرْحًا و ذَرَّحَ الشیءَ فی الریح چیز کو ہوا میں اڑانا۔ ـــ الطعامَ کھانے میں زہر قاتل ڈالنا۔ ذَرَّحَ اللبنَ دودھ میں پانی ملانا۔ الزَعْفَرانَ فی الماء پانی میں تھوڑا زعفران ملانا۔ الذَراح پانی ملا دودھ۔ لبنٌ أو عسلٌ مُذَرَّح دودھ یا شہد جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ الذَرَارِیح واحد الذُرَّاح والذُرُّوح والذِرِّيح والذُرَاح والذُرُوح والذُرُّح والذُرْنُوح والذُرَيحة ایک قسم کا زہر قاتل (ح) ایک پردار متعدد جوڑوں والا کیڑا۔

۲۔ الذَرِيحة جمع ذَرِيح ٹیلہ پہاڑی۔

ک ذُرَّاح جمع ذَرارِيح ایک ہسپانوی مکھی، چھالے یا آبلے دار بھونرا۔

ذرع: ا۔ ذَرَعَ ۔ذَرْعًا الثوبَ کپڑے کو ذراع سے ناپنا کہا جاتا ہے۔ فلان يَذْرَعُ المكانَ فلاں شخص اس جگہ چہل قدمی کر رہا ہے۔ ــ هٗ کا ہاتھ سے پیچھے سے گلا گھونٹنا۔ هُ القيءُ کو بے اختیار قے آجانا۔ و ذَرِعَ ۔ذَرْعًا عند الرجل والیه سے کی سفارش کرنا۔ ذَرَّعَ الرجلَ کا ہاتھ سے پیچھے سے گلا گھونٹنا۔ فی السباحة: تیرنے میں ہاتھ پھیلانا۔ فی المشی: چلنے میں بازوؤں کو حرکت دینا۔ الرجلُ ڈراتے یا خوش خبری دیتے ہوئے بازوؤں کو بلند کرنا کہا جاتا ہے۔ ذَرَّعَ لی شیئًا من خبره: اس نے مجھے کچھ خبر دی۔ ذَرَّعَهٗ بیننا: کو ہمارے درمیان وسیلہ بنانا۔ ذَارَعَ الرجلَ کو ہاتھ سے ناپ کر کچھ بیچنا۔ صاحبَهٗ فذَرَعَهٗ اپنے ساتھی سے قدم بڑھانے میں مقابلہ کرنا اور غالب رہنا۔ اَذْرَعَ الشیءَ: کو ہاتھ سے پکڑنا۔ ـــ ذراعیه من تحت الجُبَّة: جبہ کے نیچے سے دونوں بازوؤں کو نکالنا۔ فی الکلام: بہت گفتگو کرنا۔ تَذَرَّعَ الشیءُ لمبائی میں ہاتھ پیر پھیلنا۔ الشیءَ: کو ہاتھ سے ناپنا۔ ت الابلُ الماءَ اونٹوں کا بازوؤں تک پانی میں اتر جانا۔ ـــ فی الکلام بہت گفتگو کرنا۔ ـــ بذریعةٍ: وسیلہ بنانا۔ اِنْذَرَعَ: آگے بڑھنا۔ ـــ فی السیر: کشادہ چلنا۔ تَذَارَعَ تِ الابلُ المفازةَ اونٹوں کا جنگل کو …

چھونا، کسی چیز کو ذریعہ بنانا۔ الذَرْع: (مص) ہاتھ کا پھیلاؤ کہا جاتا ہے۔ اَبطرتُ فلانًا ذَرْعَهٗ میں نے فلاں شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دی۔ اَبْطَرَنِی ذَرْعِی: اس نے میری روزی کو بند کر کے مجھے لاغر کر دیا۔ ضِقْتُ بالأمرِ ذَرْعًا میں اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ هو واسعُ الذَرْعِ وہ قدرت والا ہے۔ هو خالی الذَرْعِ اس کا دل غموں اور فکروں سے خالی ہے۔ ذَرْعُهٗ كذا: اس کی لمبائی اتنی ہے۔ الذَرَع جمع ذِرْعان (ح) جنگلی گائے کا بچھڑا۔ الذَرِع مونث ذَرِعَة جمع ذَرِعات رات و دن پھرنے والا۔ الذَرِعات تیز کشادہ قدموں والیاں۔ الذُرْعَة جمع ذُرَع وسیلہ۔ الذِراع جمع أَذْرُع و ذُرْعان من الرَجُل (ع ا) کہنی سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک کا حصہ، بازو (مونث ہے کبھی مذکر بھی آتا ہے) طاقت، قوت۔ رجلٌ واسعُ الذراعِ طاقتور مرد۔ ضاق بالامر ذراعُهٗ: اسکی طاقت گھٹ گئی۔ هو لك علی حبلِ الذراعِ وہ تمہارے لئے تیار اور حاضر ہے۔ جعلتُ امرك علی ذراعك تم جو چاہو کرو۔ من البقر والغنم گائے اور بکری کا دست۔ من الخیل والابل گھوڑے اور اونٹ کی پنڈلی کے باریک حصہ سے اوپر کا حصہ۔ من المقاییس ایک پیمانہ جس کی لمبائی پچاس سے ستر میٹر تک ہوتی ہے۔ اولادُ ذِراعٍ و اولادُ الذارِعِ گدھے، کتے۔ الذَرُوع: لمبے قدموں والا گھوڑا اور اونٹ۔ الذَرِیع سفارش کرنے والا، تیز رفتار کہا جاتا ہے۔ موتٌ ذَرِیعٌ پھیلنے یا جلد آنے والی موت۔ قتلٌ ذَرِیعٌ حد سے متجاوز قتل۔ الأَذْرَع کہا جاتا ہے۔ فتلهم اذرعَ قتال نے ان کو بہت جلد اور بری طرح قتل کر دیا۔ المُذَرَّع: (مفع) جس کے سینہ پر نیزہ وغیرہ مارا گیا ہو اور اسکی ٹانگوں پر خون بہہ گیا ہو، آگے جانے والا گھوڑا۔ من الثیران: بیل جس کی پنڈلیوں پر سیاہ داغ ہوں۔ من الناس جس کی ماں اس کے باپ سے زیادہ شریف النسب ہو۔ المَذَارِع و المَذَارِيع واحد مِذْراع: دیہات اور کھلے علاقہ کے مابین علاقے اور گاؤں۔ جانور کی ٹانگیں۔ الذَرِيعَة جمع ذَرائِع وسیلہ (کہا جاتا ہے) هو ذریعتی الی فلان: وہ فلاں شخص تک پہنچنے کا میرا وسیلہ ہے) وہ اونٹنی جس کے پیچھے شکاری بوقت شکار آڑ لیتا ہے یا چھپتا ہے۔

۲۔ ذَرَّعَ بالشیءِ: کا اقرار کرنا۔ ـــ ذارَعَهٗ: سے مل جانا۔ الذَرِع: مونث ذَرِعَة جمع

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ذ عات اچھا ساتھی۔
۴۔ الذرع جمع ذرعان لالچ۔ الذرع مونث ذرعة جمع ذرعات زبان دراز۔ الأذرع فصیح تر، زیادہ فصیح۔

ض ذرع۔ ذرعاً ہ کو ناپنا، کاناپ لینا۔ (فاصلہ) قطع کرنا، طے کرنا (ملک) عبور کرنا، پار کرنا، میں سے گزرنا، سفر کرنا۔ ۔۔۔ عنہ کی خاطر کسی سے سفارش کرنا، بیچ میں پڑنا۔ تذرع بذریعہ او بوسیلہ کوئی چارہ کار یا ذریعہ استعمال کرنا، صرف کرنا، کام میں لانا۔ ب کو بطور بہانہ۔ عذر استعمال کرنا۔ ب الی کو کوئی مقصد حاصل کرنے کے لئے بطور ذریعہ استعمال کرنا۔ اندرع آگے بڑھنا، بیچ میں پڑنا۔

ذرع ب کو کرنے کی طاقت، قابلیت، قدرت، لیاقت یا اہلیت۔ ضاق ذرعًا ب و ضاق عنہ ذرعا کے قابل نہ ہونا، کو برداشت نہ کرسکنا، سے بیزار ہونا، اکتا جانا، کے بارے میں بے چینی محسوس کرنا، بے آرام ہونا، ناخوش ہونا۔ ذراع (مونث و مذکر) جمع اذرع و ذُرعان بازو، بازو کا اگلا حصہ، کہنی سے کلائی تک، جوڑنے والا ڈنڈا، ہاتھ، درع، دراع (۱۸ سے ۲۲ انچ تک لمبائی کا پیمانہ) ذریع تیز چلنے والا، تیز، سخت، تیزی سے پھیلنے والا، مکمل (موت) تباہ کن، سفارش کرنے والا، شفاعت کنندہ۔ ذریعة جمع ذرائع ذریعہ، مصلحت، چارہ کار، عذر، بہانہ۔

ذرف ا۔ ذرف ذرفا و ذریفا و ذروفا و ذرفانا و تذرافا الدمع آنسو بہنا صفت ذریف و تذروف۔ ۔۔ ت العین دمعها آنکھ کا آنسو بہانا۔ ذرف تذریفا و تذرفة و تذرافا الدمع آنسو بہانا۔ استذرف الشیء کو قطرہ قطرہ ٹپکانا۔ ۔۔ الضرع تھن کا دودھ دوہے جانے اور قطرہ قطرہ ٹپکائے جانے کی دعوت دینا۔ المذارف واحد مذرف آنسو بہنے کی جگہیں۔ کہا جاتا ہے۔ سالت مذارف عینیه اس کے آنسو نکل آئے، بہنے لگے۔ الذراف تیز رو۔
۲۔ ذرف ذرفانا سست چال سے چلنا۔
۳۔ ذرّف تذریفا و تذرفة و تذرافة الموت کو قریب الموت کر دینا۔ ہ الشیء کو کسی چیز پر مطلع کرنا۔ علی الخمسین پچاس سال سے زیادہ کا ہونا۔

ض ذرف۔ ذرفا و ذریفا و ذروفا و ذرفانا (آنسوؤں کا) بہنا۔ ہ (آنسو) بہانا (آنکھ کا) ذرف علی (کی عمر) سے بڑا ہونا۔ استذرف آنسو بہنے دینا۔

ذرق ا۔ ذرق یذرق ذرقا و اذرق الطائر پرندہ کا بیٹ کرنا۔ اذرق المکان جگہ کا ذرق (میتھی) پتیا گھاس اگانا۔ الذرق (مص) بیٹ۔ الذرق (ن) میتھی پتیا گھاس جو بعض طبی فوائد کی حامل ہے۔
۲۔ ذرقط الکلام بات منہ سے نکالنا، کہنا۔

ذرا ا۔ ذرا ذروا ت الریح التراب ہوا کا مٹی اڑانا، بکھیرنا۔ الحنطة گیہوں کو ہوا میں صاف کرنا۔ الشیء چیز کا ہوا میں اڑنا۔ ۔۔۔ الظبی ہرن کا تیز دوڑنا۔ فوہ کے دانت گرنا۔ ذری ۔۔۔ ذریًا ت الریح التراب ہوا کا مٹی کو اڑانا، بکھیرنا۔ ۔۔ الحنطة گیہوں کو ہوا میں صاف کرنا۔ ذرّی تذریة الریح التراب ہوا کا مٹی کو اڑانا۔ بکھیرنا۔ الحنطة گیہوں کو ہوا میں صاف کرنا۔ اذری اذراء ت الریح التراب ہوا کا مٹی کو اڑانا۔ بکھیرنا۔ الحنطة گیہوں کو ہوا میں صاف کرنا۔ ۔۔ الشیء چیز کو اس طرح گرانا جس طرح دانہ کو کاشت کے لئے گرایا جاتا ہے۔ (کہا جاتا ہے: اذراه الفرس عن ظهره اس کو گھوڑے نے اپنی پیٹھ پر سے گرا دیا۔ ۔۔ ت العین دمعها آنکھ کا آنسو بہانا۔ تذرّی: ذرّی کا معنا لازم کا صیغہ۔ الذری حفاظت، پناہ، جاری یا گرایا ہوا آنسو۔ الذرّة (ن) مکئی، غلہ کی ایک قسم۔ المذری و المذراة جمع مذار جیلی، ڈنگی، دوشاخہ، بجشاخہ۔ الذراوة ہوا میں اڑ کر گرا ہوا بھوسہ، ہوا میں اڑی ہوئی چیز۔
۲۔ ذرا ذروا الی فلان کا قصد کرنا۔ تذرّی بالشیء کے ذریعے چھپنا۔ کہا جاتا ہے۔ تذرّی من برد الشمال بصخرة اس نے شمالی ہوا کی سردی سے چٹان کی پناہ لی۔ استذری به کی پناہ لینا، کے پاس پناہ لینا۔ ۔۔ بالشجرة: درخت کا سایہ لینا، کے سایہ میں چھپنا۔ الذری پناہ، ہر وہ شے جس سے چھپا جا سکے۔ (آپ کہتے ہیں: اتخذت الحائط ذری لی۔ میں نے دیوار کی پناہ لی۔ انا فی ذری فلان میں فلاں شخص کی پناہ میں ہوں) گھر کا صحن اور اس کے اطراف۔ آپ کہتے ہیں۔ هو کریم الذری وہ کریم الطبع ہے۔
۳۔ ذرّی الشاة: بکری کی اون کتر کر اس کی پیٹھ پر تھوڑی سی اون بطور نشانی چھوڑ دینا۔
۴۔ تذرّی المکان او الجبل کسی جگہ یا پہاڑ پر چڑھنا۔ الذروة چوٹی، اونچی جگہ، ہر چیز کا بلند حصہ، بڑھاپا۔ الذروة جمع ذُری و ذِری چوٹی، اونچی جگہ، ہر چیز کا بلند حصہ۔ المذروان (ع ا) سر کے دونوں پہلو، دونوں سرینوں کے ہر دو طرف۔ جاء ینفض مذرویه: وہ دھمکی دیتا ہوا آیا۔ ملا مذروا القوس کمان کے دونوں سرے۔

ذری دیکھو ذرا۔

ض ذرا ۔ ذروا ہ کو بکھیرنا، تتر بتر کرنا، منتشر کرنا (ہوا کا) گرد و غبار اڑانا۔ ہ (غلہ، اناج) پھٹکنا۔ ذری ذریا بمعنی ذرا۔ ذرّی بمعنی ذرا۔ اذری بمعنی ذرا۔ نیز اذری ہ/ ہ کو گرانا، پھٹکنا۔ اذرت العین الدمع آنکھ کا آنسو بہانا۔ تذرّی پھٹکا جانا (غلہ یا اناج کا)۔ ہ پر چڑھنا۔ ب میں یا کے نیچے سایہ یا پناہ ڈھونڈنا، چاہنا، کے پاس پناہ لینا، بھاگ کر یا فرار ہو کر کے پاس جانا۔ استذری ب کی پناہ لینا، کے پاس پناہ لینا، کی حفاظت میں آنا، بھاگ کر یا فرار ہو کر کے پاس جانا۔ ذرة مکئی۔ ذرة شامی مکئی۔ درة صفراء مکئی۔ درة عویجة و ذرة بیضاء باجرہ۔ ذری حفاظت، پناہ۔ ذُروة و ذِروة چوٹی، اوپر کا حصہ، انتہا، عروج، نقطہ عروج، منتہائے کمال، کمال، اوج کمال۔ مذری و مذراة جمع مذار جیلی، ڈنگی، دوشاخہ، بجشاخہ، اناج پھٹکنے کا آلہ۔

ذع ا۔ الذعاع واحد ذعاعة فرقے۔
۲۔ ذعذع الشیء: کو پراگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ذعذعته النوائب مصیبتوں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ السر او الخبر بھید یا خبر کو پھیلانا۔ ت الریح الشجر ہوا کا درخت کو زور زور سے ہلانا۔ تذعذع یعنی بکھرنا، پھیلنا۔ الذعذاع چغل خور، وہ شخص جو بھید کو نہ چھپائے۔ ذعاذع النخل روی کھجور کہا جاتا ہے۔ تفرقوا ذعاذع: وہ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، منتشر ہو گئے۔

ذعب تذعّبته الجن: جن کا کسی کو خوفزدہ کرنا۔ انذعب الماء پانی کا دریا میں برابر بہتا رہنا۔ الذعبان جوان بھیڑیا۔

ذعج: ذعج ۔ ذعجا ہ: کو زور سے دھکیلنا۔

ذعر: ا۔ ذعر ۔ ذعرا ہ کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا۔ ذُعر ڈرنا، خوفزدہ ہو جانا صفت مذعور۔ ذعر ۔ ذعرا: حیران ہونا، دہشت زدہ ہونا۔ اذعرہ کو خوفزدہ کرنا۔ تذعّر خوفزدہ ہونا۔ انذعر ڈرنا، گھبرانا۔ الذعر خوف، ڈر۔ امر ذعر: خوفناک معاملہ۔ الذاعر (فا) ڈرنے والا۔ الذعور خوف زدہ۔ تہمت اور بدکلامی سے ڈرنے والی عورت۔ الذعرة (ح) ایک چھوٹا سا پرندہ جو اپنی دم بہت زیادہ ہلاتا رہتا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے۔اسے م سنکھکع بھی کہتے ہیں۔ ناقۃٌ مُذْعَرۃ دیوانی اونٹنی۔ سَنۃٌ ذُعْوِیَۃ سخت سال۔

۲۔ الذَّاعِر خبیث۔ رجلٌ ذاعر و ذُعَرۃٌ و ذُعَرۃٌ اپنے اندر عیوب رکھنے والا آدمی۔ الذُّعَرۃ سرین۔

ⓒ ذعر۔ذَعْرَہ کوڈرانا،خوفزدہ کرنا،وحشت زدہ کرنا،میں دہشت پیدا کرنا،کو چونکانا،ڈرا کر بھگا دینا، گھبرا دینا، خطرہ سے آگاہ کرنا۔

ذَعِرل سے ڈرجانا،خوفزدہ ہوجانا،چوکنا ہوجانا۔

ذعر۔ذَعْراً ڈرنا،خوفزدہ ہونا،چوکنا ہونا،دبنا ہمت توڑنا۔ اذْعَرَہ کوڈرانا،خوفزدہ کرنا،وحشت زدہ کرنا، میں دہشت پیدا کرنا،کو چونکانا،ڈرا کر بھگا دیا،گھبرا دینا،خطرہ سے آگاہ کرنا۔ تذعّر و انذعر ڈرنا، خوفزدہ ہونا،چوکنا ہونا۔ ذعر خوف،ڈر،ہول دہشت،ہیبت،انتباہ،بے بنیاد خوف۔ ذعر خوف ،ڈر،ہول،ہراس،خطرہ،اندیشہ حیرت،ہیبت،حیرانی، سراسیمگی۔

ذعط: ذَعَطَ۔ذَعْطاً ہٗ کو تیزی سے ذبح کرنا۔ موتٌ ذَاعِطٌ و ذَعُوطٌ: جلد آنے والی موت۔

ذعف: ذَعَفَ۔ذَعْفاً ہٗ کو زہر پلانا۔ ـــ الطعامَ کھانے میں زہر ڈالنا۔ ذعِفَ۔ذَعَفاناً مرنا۔ اُذْعِفَ ہٗ کو فوراً قتل کر ڈالنا۔ انْذَعَفَ کا دل کٹنا، ٹوٹنا،جلد مرجانا،سانس پھولنا۔ الـزُّعَف فوراً مار ڈالنے والا زہر کہا جاتا ہے۔ حَیَّۃٌ ذُعُفُ اللُّعاب وہ زہریلا سانپ جس کا زہر فوراً مار ڈالے۔ الذُّعاف فوراً مار ڈالنے والا زہر۔ موتٌ ذُعافٌ فوری موت،اچانک موت۔

ذعق: ذَعَقَ۔ذَعْقاً ہٗ کو پکارنا،کوڈرانا۔ داءٌ ذُعَاقٌ مہلک بیماری۔

ⓒ ذَعَقَ۔ذَعْقاہٗ کو چیخ کر ڈرا دینا۔

ذعن: ذَعِنَ۔ذَعَناً لہ کا تابع و مطیع ہونا۔ اذْعَنَ لہ کا تابع و مطیع ہونا۔ بالحق حق کا اقرار کرنا۔ المِذْعَان آسانی سے فرمانبردار ہونے والا۔

ⓒ ذَعِنَ۔ذَعَناً و اذْعَنَ ل کی اطاعت اختیار کرنا،کی بات مان لینا،کی خواہش کے آگے جھک جانا،کا مطیع ہونا،سے مغلوب ہونا،کا حکم ماننا۔ ۔ل ب کو کچھ خوشی سے دینا،رضا کارانہ کا حق ماننا،یا تسلیم کرنا۔ اذعان فرمانبرداری،اطاعت شعاری،خم پذیری،اثر پذیری،اطاعت،تعمیل،تعمیلِ ارشاد۔ مُـذْعِـن فرمانبردار،اطاعت شعار،خم پذیر،اثر پذیر،مطیع،حکم کی بلا چوں و چرا تعمیل کرنے والا،قابو میں آجانے والا۔ مِذعان قابو میں آجانے والا،خم پذیر،اثر پذیر، فرمانبردار،مطیع حکم کی بلا چوں و چرا تعمیل کرنے والا، اطاعت شعار،تربیت پذیر،بامروت،مدد کرنے والا، حکم کی تعمیل کرنے والا۔

ذف ا۔ ذفّ۔ ذفّاً و ذفَفاً و ذِفَافاً علی الجریح زخمی کو مار ڈالنا۔ فی الامر کسی معاملہ میں جلد بازی سے کام لینا۔ ذفّ الطاعونُ فلاناً طاعون کا کسی کو ہلاک کردینا۔ ذفّف و ذافّ و اذفّ الجریح و ذافّ علیہ و لہٗ زخمی کو مار ڈالنا۔ الذُّفاف تیز رو، ہلکا،خفیف۔جمع ذُفُف و اذِفّۃ زہر قاتل۔ الـذفاف زخمی کو مار ڈالنا۔(ذُفّ علی الجریح کا اسم) ـــ جمع ذُفُف و اُذِفّۃ زہر قاتل۔ الذفیف و المُذَفّف ہلکا،تیز رو۔

۲۔ ذفّ۔ ذَفِیفاً و استذفّ استِذفافاً الامرُ تیار ہونا،ممکن ہونا۔

۳۔ ذفّف جہاز راحلتِہٖ سواری کے بوجھ کو ہلکا کرنا۔ الذفّ تھوڑا سا پانی۔ الدفاف تھوڑی چیز کہا جاتا ہے۔ ماذاقَ ذِفافاً اس نے کچھ نہیں چکھا۔ و الذُّفاف جمع ذُفُف و اذِفّۃ تھوڑا پانی۔

ذفر۔ ذَفِرَ۔ذَفَراً الشیءُ کی بو ناخواہ خوش بو ہو یا بدبو۔صفت: ذَفِر و اذْفَر) مونث ذَفِرۃ و ذَفْراء۔۔ النبتُ سبزی کا زیادہ ہونا۔ اِستَذفرَ بالامر کا پکا ارادہ کرنا۔ الذَّفَر و الذَّفَرۃ بو کی تیزی،بدبو۔ الذَّفِرۃ (ن) ایک قسم کی گھاس۔ الذِّفریٰ جمع ذِفریات و ذَفاری و ذَفار (ع ا) کان کے پیچھے کی ہڈی۔ الذَّفراء (ن) ایک بدبو دار پودا۔ روضۃٌ مَذْفُورۃٌ: چراگاہ جس میں بدبو دار پودوں کی کثرت ہو۔

ⓒ ذفر تیز بو،بدبو،سڑاند،عفونت۔

ذقن: ذَقَنَ۔ذَقْناً ہٗ کی ٹھوڑی پر مارنا۔ و ذَقَنَ علی یدہ او عصاہ ٹھوڑی اپنے ہاتھ یا لاٹھی پر لگانا،ٹکانا۔ ذاقنَ مُذاقنۃً ہٗ کو تنگ کرنا۔ الذقَن و الذِقن جمع اذقان (ع ا) ٹھوڑی۔ضرب المثل ہے۔ مُثقلٌ اِستَعانَ بذقنہ: یہ اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اپنے سے کمتر سے مدد لے۔ الذِقن بہت بوڑھا۔جمع اذقان: ٹھوڑی۔ الذاقنۃ ٹیٹوا (مو): سارنگی کے صندوق کے آخر میں لکڑی کا ٹکڑا جس پر ٹھوڑی بجاتے وقت ٹکائی جاتی ہے،حلقوم کے کنارے پر کا ابھرا ہوا حصہ۔ الاذقن مونث ذَقْناء جمع ذُقن لمبی ٹھوڑی والا۔

ⓒ ذَقَن و ذِقن جمع اذقان و ذُقُون ٹھوڑی،ٹھڈی۔ ذقن مونث جمع ذُقون ڈاڑھی،گل مچھے ذقن الشیخ افتنین ،ایک قسم کی تلخ بوٹی۔ خرُّوا لاذقانہم انہوں نے سجدہ کیا،وہ منہ کے بل گر گئے۔ غرِق فی العمل حتی الذقن وہ کام میں از سرتاپا ڈوبا ہوا ہے۔ اس پر کام کی بھرمار ہے۔ ضحِک علی ذقنہ جمع ضحکوا علی ذقونہم کو بے وقوف بنانا سے مذاق کرنا۔ ضحِکت فی ذقنہ کی ہنسی اڑانا۔

ذکر ا۔ ذکرَ۔ذِکراً و تَذکاراً اللہَ اللہ تعالیٰ کی پاکی و بزرگی بیان کرنا۔ اسمَ اللّٰہِ اللہ کا نام لینا۔ الشیءَ کو یاد کرنا۔ لفلانٍ حدیثاً سے کسی بات کا ذکر کرنا،کوئی بات کہنا۔ الامرَ کو اچھی طرح سمجھنا۔ ـ حقَّ فلانٍ کے حق کی حفاظت کرنا اور اس کو ضائع نہ کرنا۔ ذکّرہٗ الشیءَ و بالشیءِ کو کچھ یاد دلانا۔ القوم۔ لوگوں کو وعظ کرنا۔ ذاکرَ مُذاکرۃً فی امرٍ سے کسی بات پر گفتگو کرنا۔ اذکرہُ الشیءَ کو کچھ یاد دلانا۔ تذکّر الشیءَ کو یاد کرنا۔ تذاکر و الشیءَ کو یاد کرنا۔ -- فی الامر کسی معاملہ پر بات چیت کرنا۔ اذَّکرَ و اِذَّکرَ و اذدکرَ الشیءَ کو یاد کرنا۔ استذکرَ الشیءَ: کو یاد کرنا،پڑھنا، حفظ کرنا۔ ـ الرجلَ کی انگلی پر ڈورا باندھنا تاکہ اس کو اس کی حاجت یاد آجائے۔ الذُّکر یادداشت کہا جاتا ہے۔ واجعلہ منّی علی ذُکر میں اسے نہیں بھولوں گا۔ الذِکر جمع اذکار نماز و دعاء،شہرت کہا جاتا ہے۔ لہٗ ذکرٌ فی الناس اسکی لوگوں میں شہرت ہے۔ثناء،شرف۔ من الرجال مضبوط،غیور اور بہادر آدمی۔ ذِکرُ المیتِ: مرنے والے کا نام لوگوں کی زبان پر جاری رہنا۔ الحق چک۔ الذکِر و الذکور و الذِکّیر بہت یاد کرنے والا (اسی سے ضرب المثل ہے: کُن ذکوراً اذا کنت کذوباً جھوٹ بولتے ہو تو یاد رکھنے والا بنو)،اچھے حافظے والا،عمدہ یادداشت والا۔ الذکِیر بہت یاد کرنے والا۔ من الرجال خوددار آدمی۔ یومٌ مُذکِرٌ سخت ہولناک دن۔ طریقٌ مُذکر خوفناک راستہ۔ داھیۃٌ مُذکِر سخت مصیبت۔ الذکرۃ: یاد۔ الذِکریٰ: یاد دہانی،زبانی یا قلبی ذکر۔ الذُکرۃ شہرت۔ رجلٌ ذکّار: اللہ کو بہت یاد کرنے والا آدمی۔ مُذکَّر خوفناک۔ یومٌ مُذکَّر: ہولناک دن۔ الذاکرۃ ذاکر کا مونث۔ قوتِ حافظہ۔ التذکرۃ جمع تذاکِر وہ چیز جس سے حاجت یاد آجائے،ٹکٹ، پاسپورٹ،ٹکٹ (سفر کا)۔ المُذکِرۃ جمع مُذکِرات ڈائری۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ذَکَّرَ الکلمۃ　کلمہ کو مذکر لانا۔ اَذْکَرَتِ المرأۃ　عورت کا اولاد۔نرینہ جننا صفت۔مُذْکِر، الذَکَر جمع ذُکُور و ذُکُورَۃ و ذُکْرَان و ذِکَار و ذِکَارَۃ و ذِکَرَۃ　نر،مرد۔من النخل　وہ کھجور جو پھل نہ لائے۔امْرَأۃ ذَکِرَۃ　مرد کے مشابہ عورت۔الذُکُورۃ　مردی،مردانگی۔المُذْکِر　نرینہ اولاد جننے والی۔مُذَکَّر　نر۔المُذَکَّرۃ و المُتَذَکِّرۃ　مرد کے مشابہ عورت۔المِذکار　لڑکے جننے والی عورت،مرد جس کی بیوی لڑکے جنے۔

۳۔الذَکَرُ من القول جمع ذُکُور　مضبوط پختہ بات۔من المطر　موسلا دھار بارش۔الذَکَر جمع ذُکُور و ذُکُورَۃ و ذُکْرَان و ذِکَار و ذِکَارَۃ و ذِکَرَۃ من الحدید　اچھا سخت لوہا۔من النحاس　سخت تانبا جو کوٹا نہ جا سکے۔سَیْفٌ ذَکَرٌ　وہ تلوار جس کی دھار عمدہ لوہے کی اور پشت گھٹیا لوہے کی ہو۔مطر ذَکَرٌ　تیز بارش،سخت بارش۔ذُکُورُ البقل　وہ ترکاریاں جو سخت اور تلخ ذائقہ ہو گئی ہوں اسکی ضد احرار ہے۔الذَکِیر من الحدید　اچھا سخت لوہا۔الذُکْرَۃ　کلہاڑی وغیرہ کے سرے پر لگا ہوا فولاد کا ٹکڑا۔ذُکْرَۃُ السیف　تلوار کی دھار۔المُذَکَّر من السیوف:　سیف براں۔ارضٌ مِذکار:　زمین جو سخت اور تلخ ذائقہ ترکاریاں اگائے۔

ن　ذَکَرَ ـُ ذِکْراً و تَذْکاراً ہ　کو یاد کرنا،ذہن میں رکھنا، کے امکان پر غور کرنا، کا تصور کرنا،کو ذہن میں رکھنا،کو ذہن میں لانا،یاد کرنا۔ذِکراً ہ:　کے بارے میں بات کرنا، گفتگو کرنا، کا نام لینا، کا ذکر کرنا، کا حوالہ دینا، سے اقتباس پیش کرنا، کو بیان کرنا، کی صراحت کرنا،کو بتانا،ظاہر کرنا (حقائق،امور معلومہ) دینا،کو عمل طور پر بیان کرنا۔ہ ل:　کوئی بات کسی کو بتانا۔تقدم یُذْکَر:　قابل لحاظ یا توجہ ترقی یا پیش رفت۔لایُذْکَرُ　ناقابل لحاظ،ناقابل غور،ناقابل ذکر۔ذَکَرَہُ بخیرٍ (یا بالخیر):　کی خوشگوار یادیں رکھنا،کا اچھے لفظوں میں ذکر کرنا۔ذکرہ بشر:　کی ناخوشگوار یادیں رکھنا۔برے طریقہ سے ذکر کرنا۔ذَکَّرہ ب　کو کی یاد دہانی کرانا،پر کوئی چیز واضح کرنا، کو واضح کرنا کہ،کو کی طرف متوجہ کرنا،کی توجہ کسی بات کی طرف مبذول کرنا۔ہ:　کسی لفظ کو مذکر بنانا۔ذاکَرَہ　سے بات چیت کرنا،مذاکرات کرنا،سے صلاح مشورہ یا کسی معاملہ پر بحث کے لئے ملاقات کرنا،سے صلاح کرنا،مشورہ کرنا،صلاح مشورہ کرنا۔ہ　سبق وغیرہ،یاد کرنا۔ذاکر دُرُوسَہُ:　اپنے اسباق کا مطالعہ کرنا،اپنا ہوم ورک کرنا۔اَذْکَرَہ ہ:　کو کی یاد دہانی کرانا،کو کچھ یاد دلانا۔تَذَکَّر ہ:　کو کچھ یاد آنا،کو یاد رکھنا،ذہن میں رکھنا،کا خیال یا تصور ذہن میں رکھنا۔تَذَاکَرَ ہ:　ایک دوسرے کو کچھ یاد دلانا، کے متعلق ایک یا دوسرے کی یاد تازہ کرنا۔باہم مشورہ کرنا،بات چیت کرنا۔اِذَّکَر بمعنی تَذَکَّرَ۔اِسْتَذْکَرَ ہ　کو یاد کرنا،ذہن میں رکھنا،کو یاد رکھنا،یاد سے جاننا۔ذِکْر　یاد،یادداشت،حافظہ،یادگار،شہرت، ساکھ،ذکر کرنا،بیان کرنا،بتانا،کہنا (کی) بات دہرانا (کا) قول پیش کرنا،کا حوالہ دینا،حوالہ پیش کرنا،حوالہ، رپورٹ،سرگذشت،کیفیت،تفصیل،حکایت،کہانی، روایت،تذکرہ،بیان،اللہ تعالیٰ سے دعا،التجا،اللہ کے نام کا ذکر (صوفیا کی اصطلاح) اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کچھ الفاظ کا ورد،اکثر رقص اور موسیقی کے ساتھ۔عَلٰی ذِکْرِ　درباره کے سلسلہ میں۔وعلی ذکرِ ذلک　کے بارے میں،ضمناً،اس سلسلہ میں۔الذِکر الحکیم　قرآن مجید۔سالف الذکر　مذکورہ بالا،بحولہ بالا۔سعیدُ الذکر　مرحوم،آنجہانی، مبارک یاد والا۔اَشَادَ بِذِکرہ　کی تعریف کرنا،کو سراہنا،کو خراج تحسین پیش کرنا۔مازال علی ذکرٍ مِن　اسے ابھی تک یاد ہے،وہ ابھی تک یاد کر سکتا ہے۔ذَکَر جمع ذُکُور و ذُکُورَۃ و ذُکْرَان:　نر،جمع ذکور: عضو تناسل۔ذُکْرَۃ　شہرت،ساکھ۔ذِکْرَی جمع ذِکْرَیَات　یاد،یادداشت،حافظہ۔ذکریات:　آپ بیتی،سرگذشت،تذکرہ۔ذَکِیر:　فولاد۔تَذْکار و تِذْکار　یاد،یاد دہانی،یادگار،نشانی،یادگار دن۔تذکار جمیع القِدِّیسین:　کل ولیوں کا دن (عیسائیت میں) تَذْکَارِی و تِذْکاری:　یادگاری،یاد دلانے والا۔تَذْکِرۃ:　یادداشت،یادگار،نشانی۔تَذْکِرَۃ: (زیادہ تر تلفظ تَذْکَرہ) جمع تَذَاکِر:　پیغام،نوٹ، سلپ،کاغذ،پرمٹ،پاس،کارڈ،ٹکٹ،داخلہ کا ٹکٹ۔تذکرۃ برید:　پوسٹ کارڈ۔تذکرۃ اِثباتِ الشخصیۃ:　شناختی کارڈ۔تذکرۃ ذَہَابٍ و ایاب:　واپسی ٹکٹ۔تذکرۃُ الرصیف:　پلیٹ فارم ٹکٹ۔تذکرۃ اشتراك:　چندہ کا ٹکٹ۔تذکرۃ طِبِّیَّۃ:　طبی نسخہ۔تذکرۃُ مرور:　پرمٹ پاس،پاس پورٹ۔تذکرۃ نُفُوس:　شناختی کارڈ (شام میں) (بطاقۃ شخصیۃ) شناختی کارڈ۔تذکرۃ الانتخاب:　مخفی رائے دہی،پوشیدہ رائے دہی،پوشیدہ رائے شماری۔تَذْکَرجی و تَذْکَرِی　ٹکٹ فروش،ٹکٹ کلرک، کنڈکٹر۔تَذْکِیر ب　کی یاد دلانا۔تَذْکِیر:　یادداشت،یادگار،نشانی،حمل،بار آوری،زرخیز بنانا، زیرہ گل چھڑکنا۔مُذَاکَرَۃ جمع مذاکرات:　بات چیت،گفتگو،تبادلہ خیال،صلاح مشورہ،مشاورت، غور و خوض،بحث،مباحثہ،بحث و تمحیص،یاد کرنا،رٹا لگانا،رٹنا،مطالعہ۔تَذَکُّر:　یاد۔اِسْتِذْکار:　رٹا لگانا،رٹنا،حفظ کرنا۔ذاکِرۃ:　یادداشت،حافظہ۔مَذْکُور:　ذکر کیا ہوا،کہا ہوا،مذکورہ بالا،مشہور،نامی گرامی۔لم یکن شیئاً مَذْکُوراً:　اسکی کوئی اہمیت نہ تھی،یہ کچھ بھی نہیں تھا۔مُذَکَّر:　مُذَکَّر مُذَکِّرَۃ جمع مُذَکِّرات:　یادداشت،نوٹ،ریمارک،نوٹ بک، میمو،میمورینڈم،محضر،محضر نامہ،ڈپلومیٹک نوٹ،فرمان، ڈگری،رسالہ،مقالہ (فاضل انجمن کی) رپورٹ (جمع) آپ بیتی،سرگذشت،تذکرہ۔مُذَکِّرَۃ الاتہام　فرد جرم۔مُذَکِّرَۃ الجَلْب　پروانہ حاضری ملزم۔مُذَکِّرَۃ شِفاہِیَۃ:　زبانی نوٹ۔

ذکا:　۱۔ذَکَا ـُ ذُکُوّاً و ذَکاً و ذَکَاءً تِ النارُ:　آگ کا شدت سے بھڑک پڑنا۔ت الشمسُ:　سورج کی تمازت کا تیز ہو جانا۔ت الحربُ:　لڑائی کا تیز و شدید ہو جانا۔ذَکاءُ المِسْكُ:　مشک کی خوشبو مہکنا صفت۔ذَکِیّ ذَکَّی النارَ:　آگ جلانا۔الحربَ:　جنگ کی آگ کو بھڑکانا۔اَذْکَی النارَ:　آگ جلانا۔الحربَ:　جنگ کی آگ بھڑکانا۔کہا جاتا ہے۔اَذْکَی علیہ العیونَ:　اس نے اس پر جاسوس بھیجے۔اِسْتَذْکَی اِسْتِذْکَاءُ النارَ:　آگ جلانا۔ت النارُ:　آگ کا بھڑکنا۔ت الشمسُ:　آفتاب کی تمازت کا تیز ہونا۔تِ الحربُ:　جنگ کی آگ کا بھڑکنا۔الذَکَا:　دہکتا ہوا انگارہ۔ذُکَاءُ:　سورج کا اسم علم جو غیر منصرف ہے کہا جاتا ہے۔طَلَعَتْ ذُکَاءُ:　آفتاب طلوع ہوا۔اِبنُ ذُکَاء:　صبح۔الذُکْوَۃ و الذُکْیَۃ:　ایندھن آگ سلگانے والی چیز۔

۲۔ذَکَا ـُ ذَکاً و ذَکَاۃً الذبیحۃَ:　جانور کو ذبح کرنا۔ذَکَّی الذبیحۃَ:　جانور کو ذبح کرنا۔الذَکَا والذَکَاۃ:　ذبح۔

۳۔ذَکَی ـِ و ذَکِیَ ـَ و ذَکُوَ ـُ ذَکَاءً:　تیز فہم ہونا صفت۔ذَکِیّ　مونث ذَکِیَّۃ جمع اَذْکِیاء۔الذَکَاء: (مص) ذہن کی تیزی،تیز فہمی۔

۴۔ذَکَّی الرجلُ:　سن رسیدہ ہونا اور بھاری بدن ہونا۔المُذَکِّی و المُذَکِّیّ من الخیل جمع مَذَاکِی و مُذَکِّیَات:　وہ گھوڑا جو عمر میں پورا اور طاقت میں کامل ہو (اسی سے ضرب المثل ہے جَرْیُ المُذَکِّیات غِلاب:　پوری عمر اور طاقت کے گھوڑوں کا دوڑنا

دوسرے گھوڑوں کی دوڑ پر غالب آتا ہے۔ من السحاب بہت برسنے والا بادل۔

○ ذکا - ذُکُوًّا و ذکًا و ذکاءً (آگ کا) بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، تیز بو کا نکلنا۔ ذکِیَ - ذکاءً تیز فہم ہونا، دانشمند ہونا، ہوشیار ہونا، سیانا ہونا۔ ذکّٰی و اذکٰی ہ (آگ) کو بھڑکانا، (کوئی چیز) جلانا، سلگانا، بھڑکانا۔ ذکّٰی کسی جانور کی قربانی کرنا، قربانی دینا۔ استذکٰی بمعنی ذکا، ذکا زیرکی، فراست، تیز فہمی، دقیقہ رسی، ذہانت، ہوشیاری، تابانی، آب و تاب، چمک دمک۔ ذُکا سورج۔ ذکی جمع اذکیاء منور، تاباں، روشن، چمکدار، ہوشیار، عاقل، فہم، دانشمند، تیز فہم، خوشبو دار، معطر، مہکیلا، خوش ذائقہ، مزیدار، لذیذ، مرغوب، خوشگوار، اشتہا خیز، چٹ پٹا۔

ذل ا- ذلّ - ذُلًّا و ذِلّۃ و مذلّۃ ذلیل ہونا، خوار و رسوا ہونا صفت ذلیل و ذُلّان جمع اذِلّاء و اذِلّۃ و ذِلال۔ ذُلًّا و ذِلًّا عیرٌ اونٹ کا بآسانی رام ہونا صفت ذلول جمع اذِلّۃ و ذُلُل کہا جاتا ہے۔ ذلّت لہ القوافی اس پر قافیوں کی آمد ہوئی۔ ذلّل ہ کو ذلیل کرنا۔ اذلّ ہٗ کو ذلیل کرنا، کو ذلیل پانا۔ الرجل سزاوار ذلت ہونا، کے ساتھیوں کا ذلیل ہونا۔ تذلّل لہ سے عاجزی و فروتنی کرنا۔ استذلّ ہٗ: کو ذلیل کرنا، کو ذلیل پانا۔ الذُّلّ (مص) تابع داری، سہولت، نرمی، تواضع کہا جاتا ہے۔ ذُلٌّ ذلیلٌ ذلیل کرنے والی تواضع یا بری تواضع یا تابعداری۔ الذِّلّ (مص) رحمت، نرمی۔ ذِلّ الطریق جمع اذلال ٹوٹی پھوٹی سڑک کہا جاتا ہے۔ دعْهُ علی اذلالِه اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ امورُ اللّٰہ جاریۃٌ اذلالَھا او علی اذلالھا اللہ تعالیٰ کے امور حسب مواقع جاری ہیں۔ جاء علی اذلاله وہ اپنے طریقے پر آیا۔ اذلالُ الناس سب سے آخری یا ادنیٰ لوگ۔ طریقٌ مُذلّلٌ پختہ چلتی ہوئی سڑک۔ شجرۃٌ مُذلَّلۃ وہ درخت جس کو ہر شخص پا سکے۔ الذُّلولِيّ نرم و خوش اخلاق۔

۲- ذُلّل الکرمُ انگور کے خوشوں کو لٹکایا جانا یا برابر کیا جانا۔ النخلُ درخت خرما کے خوشوں کو لکڑی پر رکھا جانا۔

۳- تذلذل الشیءُ ڈھیلا اور مضطرب ہونا۔ الذُّلذُل و الذِّلذِل جمع ذلاذل کپڑے کا دامن کہا جاتا ہے۔ شمّر ذلاذِلک لھذا الامر کا دامن اٹھا۔ ذلاذِل و ذُلیذلاتُ الناس سب سے آخری لوگ۔

○ ذلّ - ذلًّا و ذُلًّا و ذلالۃ و ذِلّۃ و مذلّۃ ذلیل ہونا، عاجز ہونا، خاکسار ہونا، حقیر ہونا، قابل یا لائق مذمت ہونا۔ ذلّل ہٗ/ہ کو نیچا کرنا، بے قدر کرنا، نگاہوں سے گرانا، ذلیل کرنا، نیچا دکھانا، شرمندہ کرنا، چھوٹے درجے پر لانا۔ ہ کو محکوم بنانا، زیر نگیں کرنا، قابو میں کرنا، کا زور توڑنا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، شکست دینا، فتح کرنا۔ — ہ (مشکلات، رکاوٹوں) پر قابو پانا، کو دور کرنا۔ اذلّ ہ/ہٗ بمعنی ذلّل ہ/ہٗ نیز اذلّ ہ/ہ کو نیچا کرنا، کا زور توڑنا، مغلوب کرنا، شکست دینا، فتح کرنا۔ تذلّل لِ/الی کے سامنے خود کو نیچا کرنا، عاجزی کرنا، لجاجت کرنا۔ — عاجز ہونا، خاکسار ہونا، خوشامدی ہونا، چاپلوس ہونا۔ استذلّ ہٗ کو نیچا پایا، ذلیل، کمینہ، سفلہ، خیال کرنا، کے متعلق بری رائے رکھنا، کی عزت نہ کرنا، کی ہنسی اڑانا، کی تحقیر کرنا، کو حقارت سے دیکھنا، پر بری طرح تنقید کرنا۔ ذُلّ انکسار، عجز و نیاز، گراوٹ، پستی، غیر اہم ہونا، رسوائی، فضیحت، کھلی بے عزتی، ذلت، شرمندگی، خواری، تذلیل، شرمساری، عاجزی، عجز و انکسار، انکساری۔ ذِلّۃ گراوٹ، پستی، کمینہ پن، ذلت، خباثت، سیاہ کاری، بدکاری، فروتنی، انکساری، خوشامد، چاپلوسی، تابعداری، اطاعت شعاری، فرمانبرداری۔ ذلیل جمع اذلّاء و اذِلّۃ: حقیر، ذلیل، کمینہ، پست، گرا ہوا، بازاری، سفلہ، پاجی، خاکسار، مسکین، عاجز، نیازمند، قابل نفرت، فرومایہ، خوار، فرمانبردار، اطاعت شعار، سکھانے یا سدھانے کے قابل، قابو میں آ جانے والا، جھکنے والا، اثر پذیر، اطاعت پذیر، خوشامدی، چاپلوس، کاسہ لیس، غلامانہ، عاجزی کرنے والا، لجاجت کرنے والا۔ ذَلُول جمع ذُلُل سکھانے یا سدھانے کے قابل، فرمانبردار، اطاعت شعار۔ شریف (جانور) سواری کی اونٹنی۔ مَذَلّۃ عاجزی، انکساری، بے زبانی، نرم دلی، حلم، فروتنی، تذلیل، اہانت، ذلت۔ تذلیل بے وقری، مذمت، تحقیر، ہتکی رسوائی، ذلت، توہین، تذلیل، مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنا، ان پر قابو پانا۔ اذلال رسوائی، ذلت، ہتکی، بے قدری، ذلت، خفت، تذلیل، اہانت۔ تذلّل اپنی آپ تذلیل، بے جا انکسار۔ ذُلذُل جمع ذلاذِل کسی چیز کا سب سے نچلا حصہ۔ سنجاف، مغزی، گوٹ، جھالر، حاشیہ، کنارہ، پوشاک کا دامن۔ ذلاذل الناس بھیڑ، ازدحام، جم غفیر، بے ترتیب مجمع، نیچ ذات کے لوگ۔

ذلغ: ذلَغ - ذلْغًا کے ہونٹ پھٹنا۔ صفت۔ اذلغ الطعامَ کھانا کھانا۔ ذلِغ - ذلَغاتٍ شفتُہٗ کا ہونٹ الٹنا صفت۔ اذلَغ

ذلف: ذلِف - ذلَفًا الانفُ ناک کا چھوٹی اور ... بانسے کا ہموار ہونا، ایسی ناک والے کو اذلف مونث ذلفاء جمع ذُلف کہتے ہیں۔

○ الاذلف مونث ذلفاء جمع ذُلف چھوٹی اور عمدہ چھپلی ہوئی ناک والا۔

ذلق ا- ذلِق - ذلَقًا اللسانُ زبان کا فصیح و تیز ہونا۔ و ذلّق و اذلق السکینَ چھری تیز کرنا۔ ذلِق ذلقًا السیفُ او اللسانُ تلوار یا زبان کا تیز ہونا۔ ذلُق - ذلاقۃً اللسانُ زبان کا فصیح ہونا۔ انذلق تیز ہونا۔ الذلْق و الذلَق و الذُّلُق و الذلِق و الذَّلِق و الذلیق بلیغ و فصیح۔ من الالسنۃ او الاسنۃ تیز زبان یا بھالا۔ کہا جاتا ہے۔ لسانٌ ذلِقٌ طلِقٌ و ذُلُقٌ طُلُقٌ و ذُلُقٌ طُلُقٌ تیز اور روانی والی زبان۔ ذلْقُ الشیءِ دھار، نوک تیزی۔ ذلَق اللسان زبان کا کنارہ۔ — السھمِ تیر کا باریک حصہ۔ ذلقۃُ الشیءِ کسی شے کی تیزی۔ الاذلق من الالسنۃ او الاسنۃ جمع ذُلْق تیز زبان یا بھالا۔ الاحرُفُ الذُّلُق و حرف الذلاقۃ یہ چھ حروف ہیں جن میں سے تین شفہی ہیں جو ب، ف، م اور ذلقیۃ کہلاتے ہیں جبکہ باقی تین جن کا مخرج نوک زبان ہے یہ ل، ر، اور "ن" ہیں اور ذولقیۃ: کہلاتے ہیں۔ الذولق من کل شیء دھار، نوک، تیزی۔ ذولقُ اللسان زبان کی نوک۔ الاحرفُ الذولقیۃ وہ حروف جن کا مخرج زبان کی نوک ہے۔ المُذلّق تیز کنارہ والا۔

۲- ذلَق - ذلْقًا و اذلق الطائرُ پرندہ کا بیٹ کرنا۔

۳- ذلِق - ذلقًا السراجُ چراغ کا روشن ہونا۔

۴- ذلَق - ذلْقًا ہٗ: کو کمزور کرنا، دبلا کرنا۔ ذلِق - ذلقًا الرجلُ بے آرام ہونا۔ — من العطش پیاس سے قریب المرگ ہونا۔ ذلّق ہٗ کو کمزور اور دبلا کرنا۔ — الضبَّ گوہ کو نکالنے کے لئے اس کے بل میں پانی ڈالنا۔ اذلق ہ کو کمزور و دبلا کرنا، کو پریشان کرنا، بے آرام کرنا۔

۵- المُذلّق پانی ملا دودھ۔

○ ذلق نوک، سرا، زبان کی نوک۔ ذلْق و ذلِق و ذلیق: فصیح، چرب زبان، طرار، روانی والی (زبان) ذلاقۃ: فصاحت، خوش بیانی روانی (زبان کی) چرب زبانی۔

ذلی: ذلِیَ - ذلْیًا الرطبُ تر کھجور چننا۔ تذلّی: تواضع و عاجزی کرنا۔ انذلی الرطبُ تر کھجور کا چنا جانا۔ اذلولی ذلیل ہونا، تابع ہونا، چھپ کر تیزی سے نکل جانا۔

ذمّ - ذمًّا مذمّۃ ہٗ: کی برائی کرنا، عیب گیری کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ذَمَّمَ هُ کی مذمت کرنے میں مبالغہ کرنا۔ ذامَ عیشہُ قناعت کے ساتھ گزارہ کرنا۔ اذَمَّ الرجلُ قابل مذمت فعل کرنا۔ ہُ کو قابل مذمت پانا۔ بهم کو حقیر جاننا، یا مذموم حالت میں چھوڑنا۔ تذامَّ القومُ ایک دوسرے کی مذمت کرنا۔ تذمَّمَ منه سے بچنا، اور اس کو اپنے لئے ننگ و عار سمجھنا کہا جاتا ہے۔ انی اتذمَّمُ من القوم میں اس قوم سے کنارہ کش ہو کر دوسری قوم کی طرف چلا جاؤنگا۔ لو لم اترك الكذب تأثماً لتركته تذمُّماً اگر میں جھوٹ کو گناہ سے بچنے کے لئے نہ چھوڑتا تو مذمت سے بچنے کے لئے چھوڑ دیتا۔ استذمَّ قابل مذمت کام کرنا۔ - إلى فلان کے ساتھ قابل مذمت فعل کرنا۔ الذمّ (مص) جمع ذُمُوم مذمت، مذموم، برائی، عیب کہا جاتا ہے۔ افعَلْ كذا وخلاك ذم ایسا کرو تو تم ملامت سے بری ہو گے۔ الذميم جمع ذِمَام برا۔ امرٌ مُذِمٌّ شرمناک کام۔ المَذَمَّة (مص) عیب جوئی، الزام تراشی کہا جاتا ہے۔ قضى مَذَمَّتَهُ او مَذِمَّتَهُ اس نے مذمت کے خوف سے اس سے اچھا سلوک کیا۔ المُذَمَّم مذموم۔

۲۔ ذمّ - ذَمًّا و مَذَمَّةً الانفُ ناک سے ریزش بہنا۔ الذميم جمع ذِمَام بیماری زدہ، بدمزہ پانی۔

۳۔ اذَمَّ هُ کو پناہ دیکر اپنی حفاظت میں لے لینا۔ عليه کے لئے امان لینا۔ استَذَمَّ بہ سے پناہ کا خواہاں ہونا۔ الذِمّ کفالت۔ الذِمَّة جمع ذِمَم امان، عہد، کفالت۔ الذمّة جمع ذِمَم امان، عہد، ذمہ داری کہا جاتا ہے۔ فی ذِمَّتی كذا یہ میری ذمہ داری میں ہے۔ انت فی ذمة الله تم اللہ کی امان و پناہ میں ہو۔ اَهْلُ الذِمَّة دارالاسلام میں جزیہ دیکر رہنے والے غیر مسلم لوگ، ایک دوسرے سے معاہدہ کرنے والے کہا جاتا ہے۔ هُمْ ذِمَّةٌ ان کا ایک دوسرے سے معاہدہ ہے۔ الذِمِّی مسلمان بادشاہ کی غیر مسلم جزیہ دینے والی رعایا۔ الذِمَام جمع اَذِمَّة حرمت حق المَذَمَّة: حق، حرمت۔ اسی سے ہے۔ هو يحفظ مَذَمَّتَهُ: وہ اپنے حق و عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اَذْهِب مَذَمَّتَهُ بشیءٍ اس کو کچھ دے کر حق کی ادائیگی کرو۔ الذَمَامَة و الذِمَامَة کفالت۔ الذِمَامَات حقوق و حرمتیں۔

۴۔ اَذَمَّ المكانُ جگہ کا قحط زدہ اور بے برکت ہونا۔ بئرٌ ذَمَّةٌ کم پانی والا کنواں، زیادہ پانی والا کنواں (ضد) بئر ذميه جمع ذِمَام کم پانی والا کنواں، زیادہ پانی والا کنواں (ضد) الذَمَام مَقِيه۔

۵۔ المذمّ ہلاک ہونے والا، بہت دبلا کہا جاتا ہے۔

رجل ذِمّ دبلا مرد۔ المُذِمّ: بے حرکت۔ الذَميم جمع ذِمَام سطح تک بلند کنواں، شبنم۔

۶۔ ذَمْذَمَ الرجلُ تھوڑا عطیہ دینا۔

○ ذمّ - ذَمًّا و مَذَمَّةً ہ کی عیب جوئی کرنا، کو الزام دینا، قصوروار ٹھہرانا، کو برا، نامناسب یا قابل الزام پانا، پر اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا، کی مذمت کرنا۔ ذَمَّمَ ہ کو ڈانٹنا، کی سخت مذمت کرنا۔ کو ملامت کرنا۔ ذَمّ ملامت، زجر، توبیخ، مذمت، بے وقری، تحقیر، توہین، ہتک، بدنامی، ناقدری۔ ذمّة جمع ذِمَم حفاظت، ذمہ داری، پروا، نگہبانی، خبرداری، حفاظت کا عہدہ و پیمان، معاہدہ، قول و قرار، عہد، جوابدہی، مالی ذمہ داری، قرض، حرمت، زندگی اور جائیداد کی محافظت، کفالت، ضمانت، ضمیر، دل کی گواہی۔ بالذمةَ ایمانداری سے، فی الواقع، سنجیدگی سے۔ فی ذِمَّتی وعلی ذِمَّتی سچ، سچ سچ، یقیناً، واقعی۔ فی ذِمَّتِهِ وبِذِمَّتِهِ کے ذمے۔ مابذمته اس کا قرض۔ علی ذمته کے زیر حفاظت، کی تحویل میں، کے ہاتھ میں، کے سپرد، کے فائدہ کے لئے یا کے مقصد کے لئے (مالی وسائل)۔ هی علی ذمته وہ مالی طور پر اسکی دست نگر ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے ذمے ہے۔ اهلُ الذِمّة اسلامی ممالک میں رعایا کے طور پر رہنے والے آزاد غیر مسلم جو جزیہ دیکر حفاظت اور امان کے حقدار ہیں۔ طاهرُ الذمة صاف ضمیر والا۔ دیانت دار۔ برّأ ذِمَّتَهُ اپنے ضمیر کو تسکین دینا، اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ ذِمِّی آزاد غیر مسلم شخص جو کسی مسلمان ملک میں آزاد رعایا کے طور پر رہتا ہو اور جزیہ ادا کرتا ہو۔ ذِمَام جمع اَذِمَّة حق، دعویٰ، استحقاق، حفاظت، جان و مال کی حفاظت۔ فی ذِمام الليل رات کی تاریکی میں ہیں۔ ذَميم ڈانٹ ڈپٹ کیا ہوا، برا، نامناسب، قابل الزام، قابل اعتراض، لائق مذمت، بدصورت، ناجائز، غیر منصف، بد طینت، کینہ جو، ناگوار۔ مَذَمَّة جمع مَذَمَّات: عیب جوئی، الزام تراشی، الزام، ملامت، زجر، توبیخ۔ مَذْمُوم: ملامت کیا ہوا، مذمت کیا ہوا، الزام لگایا ہوا، مذموم، قابل الزام، برا، نامناسب، قابل اعتراض، لائق مذمت۔

دما: دَمَا - دَمًا الامر عليه پر کوئی معاملہ شاق و بار ہونا۔

دمر ۱۔ ذَمَرَ - ذَمْرًا هُ کو دھمکی دینا۔ هُ علی الامر کو کسی کام پر ملامت کر کے اکسانا، ابھارنا۔ تَذَمَّرَ کسی کام کے ہاتھ سے نکل جانے پر اپنے آپ کو ملامت کرنا، غصہ کرنا۔ علی فلان: کسی پر برافروختہ ہونا، کو دھمکانا کہا جاتا ہے۔ كان يَتَذَمَّرُ علی ربّه وہ اپنے آقا پر بلند آواز سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ و- تذامَرَ القومُ: ایک دوسرے کو ملامت کرنا، ایک دوسرے کو جنگ پر بھڑکانا۔ الذَمِر و الذِمْر و الذِمِرّ والذَمِير جمع اَذْمار بہادر۔ ذَمَارِ جنگ پر برانگیختہ کرنے کے لئے اسم فعل۔ الذِمَار ہر وہ چیز جس کی حمایت، حفاظت اور بچاؤ کسی کے ذمے ہو اور ایسا نہ کرنے پر ملامت کی جائے، حرم، خاندان۔ (کہا جاتا ہے۔ هو حامِیُ الذِمَار: وہ عزت کا محافظ ہے۔) سب کچھ جو مقدس ہو، کہا جاتا ہے۔ هو اَمْنَعُ ذِماراً مِنْكَ وہ تم سے زیادہ اپنے اہل اور اپنی سب چیزوں کا حفاظت کرنے والا ہے۔ الذَمَارَة شجاعت۔ الذِيمُرِیّ: سخت طبیعت (شخص)۔

۲۔ ذَمَرَ - ذَمْرًا الاسدُ شیر کا دھاڑنا۔ ذَمَرَ الرجلَ کے مونڈھے کو چھونا۔ الشیءَ کا اندازہ لگانا۔ المُذَمَّر (مفع) گردن اور اس کے اردگرد کا حصہ، کندھا کہا جاتا ہے۔ بَلَغَ الامرُ المُذَمَّرَ معاملہ سنگین ہو گیا۔

○ تَذَمَّرَ من / علی کے بارے میں شکایت کرنا، بڑبڑانا۔

ذِمَار مقدس قبضہ، عزیز یا پیاری سمجھی ہوئی اشیاء، عزت، نیک نامی، وقار۔ تَذَمُّر جمع تَذَمُّرات بڑبڑانا، بڑبڑاہٹ، شکایت، وجہ شکایت۔

ذمل: ذَمَلَ - ذَمْلاً و ذَمِيلاً و ذُمُولاً و ذَمَلاناً البعيرُ اونٹ کا نرم چال سے چلنا۔ ذَمَّلَ البعيرَ اونٹ کو نرم چال چلانا۔ الذَمِيل: نرم چال۔ ناقة ذَمُول نرم چال چلنے والی اونٹنی۔

الأَذْمَل: برص والا۔

ذمه: ذَمِهَ - ذَمَهًا الحرُّ گرمی کا تیز اور شدید ہونا۔ الرجلُ بالحرّ: گرمی سے گھبرا جانا۔

ذمي ۱۔ ذَمِيَ - ذَمًا و ذَمَاءً: ہلنا، حرکت کرنا۔ ذَمَى - ذَمَيَانًا: جلدی کرنا۔ اِستَذْمَى ماعنده کا پیچھا کر کے سب کچھ لے لینا۔

۲۔ ذَمَى - ذَمَاءً: کی بیماری کا طویل ہونا، قریب المرگ ہونا۔ اَذْمَى اِذْمَاءً فلانا: کو مار مار کر قریب المرگ کر دینا۔ الذَمَاء رمق زندگی کہا جاتا ہے۔ اَطْوَلُ ذَمَاءً من الضبّ سوسمار سے بھی زیادہ سخت جان (کیونکہ سوسمار کی جان بہت دیر میں نکلتی ہے) کہا جاتا ہے۔ مَابقی مِنهُ اِلّا ذَمَاءٌ يتردّدُ فی خیال اسکی باقی جان جسم میں مکڑ خیال کی طرح ہچکچاتی ہے۔

۳۔ ذَمَى - ذَمَاءً بدبو دینا۔ لهُ ذَمَّا الريحُ کو ہوا کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تکلیف دینا۔ الذّمِی بدبو۔
٭ ذَمِیَ ۔ذَمَاءً موت کی کشمکش میں ہونا۔ ذَمَاء
آخری بچا کھچا، زندگی کا آخری سانس۔ ذماء من
الحیاۃ زندگی کا آخری سانس۔
ذنّ ا۔ ذَنَّ ۔ِذَنِینًا و ذَنًّا المُخاط ناک سے رطوبت
بہنا۔ ذَنًّا و ذَنَّنَ کی ناک کی رطوبت بہنے لگنا۔
الذنن (مص) گندگی۔ الاذنّ مونث ذَنّاء جمع
ذُنّ جس کی ناک سے رینٹ بہتی ہو۔ انفك منك
وان كان اذنّ اس ضرب المثل میں اس شخص کو مخاطب
کیا جاتا ہے جو اپنی قوم کے ضعفاء سے بے زار ہو۔
الذنان و الذنین ناک کی ریزش، رینٹ۔
۲۔ ذنّ ۔ ذَنِینًا البردُ سردی کا سخت ہونا۔
۳۔ ذنّ ۔ ذَنِینًا و ذَنًّا کمزور چال سے چلنا کہا جاتا
ہے: انهُ لیذِنُّ وہ بڑھاپے یا بیماری سے کمزور ہے۔
نیز کہا جاتا ہے۔ مازال یذن فی تلك الحاجة
حتی انجحَها وہ اس ضرورت میں ہچکچاتا رہا یہاں
تک کہ وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ الذُّنانة کمزور شے
کا بقیہ، حاجت۔
ذنب ا۔ ذَنَبَ ۔ُذَنْبًا ہُ کا پیچھا کر کے اس کے نشانات
قدم کو نہ چھوڑنا۔ تَذَنَّبَ الطریقَ راستہ پکڑنا۔
تَذَانَبَ السحابُ بادلوں کا آگے پیچھے چلنا۔
اِسْتَذْنَبَ ہُ کا پیچھا کرنا۔ ـــ الامرُ کام کا پورا
ہونا۔
۲۔ ذَنَّبَ الجرادُ ٹڈی کا انڈے دینے کے لئے زمین
میں دھنسنا۔ الضبُّ سوسمار کا اپنے بل سے دم کو باہر
نکالنا اور سر اندر رکھنا۔ ـــ الضبَّ سوسمار کو دم سے
پکڑنا۔ العمامةَ عمامہ کا شملہ چھوڑنا۔ ـ الکتابَ
کتاب کے ساتھ اس کا تتمہ شامل کرنا۔ تَذَنَّبَ الرجلُ
پگڑی کا شملہ لٹکانا۔ الذنب من الحیوان جمع اَذْناب
دم، جاتا ہے۔ ضربَ بِذَنَبِهِ وہ غیر متزلزل رہا۔
رکب ذَنَبَ البعیر وہ اپنے ناقص حصے پر راضی رہا۔
رکب ذَنَبَ الریح وہ سبقت لے گیا ایسی سبقت
جسے کوئی اور نہ پا سکا۔ بینی و بینه ذنبُ الضبّ
میرے اور اس کے درمیان عداوت ہے۔ ذَنَبُ
الثعلب و ذنبُ الفرسِ (ن) دو پودوں کے نام۔
ذَنَبُ الخیل او الکُنباثُ (ن): مرطوب جگہوں میں
اگنے والا ایک پودا۔ العقربِ بچھو کا کانٹا، ڈنک۔
ـ السوطِ کوڑے کا سرا۔ ادنا... ... گھٹیا،
نیچے طبقے کے لوگ۔ الذِناب جمع ذَنائِب رسی جس
سے اونٹ کی دم باندھی جاتی ہے۔ ذِنابُ الشیءِ
چیز کا پچھلا حصہ۔ ضبّ اَذْنَب لمبی دم کا سوسمار۔

الذَّنُوب دنبہ کی چکی کا گوشت۔ جمع ذَنَائِب دِناب
و اَذْنِبَة من الخیل لمبی اور گھنے بالوں کی دم والا
گھوڑا۔ ذَنُوٌ ذَنُوبٌ دم دار کنبہ۔ المِذْنَب لمبی
دم۔ والمِذْنَبَة چمچہ۔ الذَنَبة جمع ذَنَبات دم ـــ
من الوادی وادی کا سرا۔ ذَنَبَاتُ الناس و
ذَنَبَاتُهم گھٹیا درجے کے لوگ، لوگوں کے تابع
فرمان افراد۔ اَلْمُذَنَّب دم دار چیز۔ نجمٌ مُذَنَّب
و ذات الذَنَب (فک) دم دار ستارہ۔ الذِنبیّ
و الذُنُبیّ دم۔ المُذَانِب من الابل او الخیل
سب سے پیچھے چلنے والا اونٹ یا گھوڑا۔ الذِنابة
و الذُنابة من الوادی وادی کا سرا۔ الذُنابی
پرندہ کی دم۔ ذُنابی الطائرۃ (اع) طیارہ کے پیچھے
سطحوں کا مجموعہ جو اس کو قائم رکھنے کے لئے تیار کیا جاتا
ہے۔
۳۔ اَذْنَب الرجلُ گناہ کا مرتکب ہونا۔ تَذَنَّب علیه
پر ظلم و زیادتی کرنا۔ اِسْتَذْنَبَ ہُ کو مجرم پانا یا سمجھنا۔
الذَّنْب جمع ذنوب جمع الجمع ذُنُوبات جرم، گناہ،
قصور۔
۴۔ الذَّنُوب قبر۔ المِذْنَب تنگ نالہ یا ندی کہا جاتا
ہے: سالت المَذَانِبُ نالے بہ پڑے۔ الذِنابة
قرابت۔
○ اَذْنَبَ: ظلم کرنا، گناہ کرنا، جرم کرنا، خلاف ورزی کرنا،
مجرم ہونا، عاصی ہونا، خطا کار ہونا، گناہ گار ہونا۔ سزا کا
مستوجب، لائق تعزیر یا قابل مواخذہ ہونا۔
اِسْتَذْنَبَ ہ کو گناہ گار، مجرم یا خلاف ورزی کا مرتکب
پانا یا قرار دینا۔ ذَنْب جمع ذنوب گناہ، جرم، خلاف
ورزی، خطا، قصور، فعل بد، مجرمانہ فعل، برا کام۔ ذَنَب
جمع اَذْناب دم، سرا، حمایتی، طرفدار، پیرو، بہی خواہ،
مرید، چیلا، معتمد خاص، ساتھی ملازم۔ ذَنَبِی دم کی
مانند، دم کی طرح، دم دار، ملحقہ، بطور تتمہ یا ضمیمہ شامل،
کوئی چیز یا شخص جو بطور ماتحت دوسرے کے ساتھ ہو،
وابستہ، ماتحت، زیر حکم، تابع محتاج۔
ذُنَیب ڈھل۔ مُذَنَّب دم دار تارا۔ مُذْنِب مجرم، گناہ
گار، بدکار، قصور وار، خطا وار، پاپی، لائق مواخذہ،
مستوجب سزا، سزاوار۔
ذہ: ذِہْ و ذِہِ مونث قریب کے لئے اسم اشارہ ہائے تنبیہ
داخل ہونے پر کہا جاتا ہے۔ هٰذِهْ و هٰذِهِ یہ (مونث
چیز یا شخص)۔
ذھب: ا۔ ذَهَبَ ۔َذَهَابًا و ذُهُوبًا و مَذْهَبًا چلنا،
گزرنا، مرنا۔ ـ الامرُ ختم ہونا۔ عَلَی الشیءِ ہُ کو
بھول جانا، ... کے ہاتھ سے جانا

جگہ سے ہٹانا۔ کہا جاتا ہے۔ ذهبت به الخُیَلاءُ
اس نے تکبر اور خود فریبی میں افراط و تفریط سے کام لیا۔
اَذْهَبَ ہُ و اَذْهَبَ بِه کو لے جانا۔ الذَّهُوب
جانے والا۔
۲۔ ذَهَبَ ۔ذَهَابًا و ذُهُوبًا و مَذْهَبًا فی المسئلة اِلی
کذا کسی مسئلہ میں کوئی رائے رکھنا، ہونا۔ تَمَذْهَبَ
بالمَذْهَب کسی مذہب کی پیروی کرنا۔ المَذْهَب
(مص) جمع مَذَاهِب اعتقاد، طریقہ، اصل۔
مَذَاهِبُ الاسلام حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی۔
المُذَهَّبَات زمانہ جاہلیت کے سات قصیدے جو
معلقات کے بعد دوسرے درجہ میں شمار ہوتے ہیں۔
۳۔ ذَهِبَ ۔ذَهَبًا سونے کی کان میں بہت سا سونا پا کر
حیران ہونا، عقل جاتی رہنا۔ ذَهَّبَ و اَذْهَبَ الشیءَ
کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھانا۔ ایسی چیز کو۔ ذَهِب
و مُذْهَب و مُذَهَّب کہا جاتا ہے۔ الذَّهَب
(مص) جمع اَذْهاب و ذُهُوب و ذُهْبان سونا
(کبھی مونث بھی آتا ہے) سونے کا ایک ٹکڑا ذَهَبَة
کہلاتا ہے۔ ـــ جمع ذِهاب و اذهاب و جمع
اَذاهِیب انڈے کی زردی۔
۴۔ الذِّهْبَة جمع ذِهاب و اَذهاب جمع اَذاهِیب ہلکی
یا زور کی بارش۔
○ ذَهَبَ ۔ذَهابًا و مَذْهَبًا اِلی کے پاس جانا، کا سفر
کرنا، ـــ جانا، روانہ ہونا، چھوڑنا، غائب ہونا، دفعتہ
غائب ہو جانا، ہوا میں تحلیل ہو جانا، ختم ہو جانا، جاتا
رہنا، معدوم ہو جانا، ختم ہونے کے قریب ہونا، سمٹنا،
گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا، فنا ہو جانا، مر جانا، تباہ ہو
جانا۔ ب: کو لے جانا، غائب کر دینا، چرا لینا، کسی چیز
یا شخص کو بہکا کر لے جانا، کو نیست و نابود کرنا، تباہ و برباد
کرنا۔ ذهب به اِلی کو تک لے جانا، کی تک رہنمائی
کرنا۔ ـــ اِلی کچھ سوچنا، خیال کرنا، یقین کرنا،
اعتقاد رکھنا کہ، کی رائے ہونا کہ۔ عن: سے بچ نکلنا،
کے ذہن سے نکل جانا، ذهب عنه ان: بھول جانا
کہ، ذہن سے نکل جانا، کا نظروں سے اوجھل ہو جانا۔
ذهب عن کو نظر انداز کر دینا، کو نہ کرنا، چھوڑ دینا۔
ذَهَبَ و جَاءَ: آگے پیچھے جانا، ٹہلنا، چہل قدمی کرنا۔
ذهب اِلی ابعدَ من: سے آگے جانا۔ ما یذهب
فی نَزْعَتِهِ: اس طرح۔ اَیْنَ یُذْهَبُ بِكَ تمہاری
یہ مراد نہیں ہو سکتی، یہ بیہودہ اور احمقانہ تجویز ہے۔
ذَهَبَ سُدًی بیکار یا فضول ہونا، لاحاصل ہونا۔
ذَهَبَ اَدْراجَ الریاح بن دیکھے گزر جانا، کوئی
نشان چھوڑے گزر جانا، ٹائیں ٹائیں فش ہونا، لاحاصل

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونا،فضول یا بیکار ہونا، کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا، کا کچھ نہ بنتا، ناکام رہنا۔ ذهَبَ كَأَمسِ الدابر ہوا میں تحلیل ہو جانا، کوئی نشان چھوڑے غائب ہو جانا، گزشتہ کل کی طرح۔ ذهب بَبَهَائِهِ کا سحر، دلربائی یا کشش زائل کر دینا۔ ذهب بنفسه (خوشی، دہشت وغیرہ کا) کسی کی جان لے لینا۔ ذهَبَ بخيالِهِ اِلى کا تصور تک بھٹکنے دینا۔ ذهب مذهبهٗ کسی کا مکتبہ فکر قبول کرنا، کے خیالات قبول کرنا، کی پالیسی اختیار کرنا، کی طرح کام کرنا، کی تعلیمات کی اتباع کرنا، اپنانا۔ ذهَبَ كُلَّ مذهب ہر سمجھ میں آنے والی بات کرنا، کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرنا، پوری کوشش کرنا، ہر طرح کی کوشش کرنا۔ ذهَّب ہ کو ملمع کرنا، پر سونے کا پتر چڑھانا، کو گلٹ کرنا۔ اَذْهب ہ کو غائب کرنا، نکال دینا، خارج کرنا، ہٹانا، اٹھانا۔ ہ عن سے کوئی چیز لے جانا۔ تمذهَب ب کوئی تعلیم، مذہب اختیار کرنا، قبول کرنا۔ ذهب (مذکر و مونث) سونا، سونے کا ٹکڑا، سونے کا سکہ۔ ذهَبٌ ابيض پلاٹینم۔ ذهَبى سنہری، سونے کا، قیمتی بہت عمدہ، اعلیٰ، موزوں، مناسب، برمحل (مشورہ، مقولہ وغیرہ) اية ذهبية سنہری لفظ، قول، قول زریں۔ ذهَبيّةجمع ذهبيات دریائے نیل میں چلنے والی لمبی ہاؤس بوٹ (رہائش کے لئے بنائی ہوئی کشتی) ذهاب جانا، گزرنا، چھوڑنا، خفیف ہونا، سمٹنا، گھٹتے گھٹتے کم رہ جانا، نقصان، گھاٹا، خسارہ، پوشیدگی، غیبوبیت، روانگی، سفر۔ تفریحی سفر، رائے خیال، الى ان کہ۔ ذهاباً و ايابا جانا آنا، آگے پیچھے اوپر نیچے، تذكرة ذهابٍ و اياب جانے آنے کا ٹکٹ۔ ذهُوب جانا۔ ذهوب و مآب آنا اور جانا۔ فی جيئة و ذهوب آتے جاتے، اتار چڑھاؤ کی حالت میں، کے نشیب و فراز میں۔ مذهبجمع مَذاهِب جانا، روانگی۔ عن سے باہر نکلنے کا راستہ، سے فرار کا راستہ۔ — طریقہ، طریقہ عمل، پالیسی، سڑک، رائے، خیال، عقیدہ، اعتقاد، یقین، نظریہ، نظریاتی بنیاد، نقطہ نظر، تعلیم، اصول، عقائد، تحریک، صحیح اور واضح سمت کا تعین، محل وقوع یا سمت کا تعین، میلان، رخ، رجحان، مکتبہ فکر، مذہب، فقہی مذہب، مذہبی مسلک، دھرم، مت، ایمان فرقہ، گروہ۔ مذهبُهٗ فى الحياة اس کا فلسفہ حیات، المذهب المادى مادی نظریہ زندگی تک مادی رسائی۔ ذهب مذهبا بعيدا بہت دور جانا، بہت دور تک پھیلا ہوا ہونا۔ مذهبى فرقہ وارانہ، گروہی، مسلمہ، فرقہ بندی کا۔ مذهبية فرقہ پرستی۔ ذاهب اللون بے رنگ، خراب یا بدلے ہوئے رنگ کا، پھیکا (رنگ)۔ مَذْهُوبٌ به و مذهوبُ العقل پاگل، دیوانہ، آپے سے باہر۔ مُذَهَّب و مُذْهَب سونے کا پتر چڑھایا ہوا۔ گلٹ شدہ، سنہری، ملمع۔

دهر ذَهِرَ ـ ذَهَراً فُوهُ کالے دانتوں والا ہونا، صفت۔ اَذْهر۔

ذهل ۱۔ ذَهَلَ ـ ذَهْلاً و ذُهُولاً الشىء و عنه کو بھول جانا، سے غافل ہونا۔ ذَهِلَ ـ ذُهُولاً حیران ہونا، ہکا بکا رہنا۔ اَذْهَلَ ہ کو بھلا دینا، غافل کر دینا۔ المَذْهَلجمع مَذاهِل بھولنے کی جگہ۔

۲۔ الذُهْل و الذَهْل من الليل رات کا ایک حصہ۔ الذُهْلُولجمع ذَهَالِيل من الخيل او الرجال عمدہ گھوڑا، اچھا آدمی۔

○ ذَهَلَ ـ ذَهْلاً و ذُهُولاً عن کو بھول جانا، نظر انداز کرنا، سے اغماض کرنا، چشم پوشی کرنا، کو چھوڑنا، ترک کرنا، پر توجہ نہ کر سکنا۔ ذَهِلَ ـ ذُهُولاً حیران پریشان ہونا، متحیر ہونا، الجھن میں پڑ جانا، گھبرا جانا، دہشت زدہ ہو جانا، خوف زدہ ہونا، ہراساں ہونا، چونک پڑنا، بوکھلا جانا، چکرا جانا، ششدر رہنا، حیرت میں پڑنا، متعجب ہونا، ڈرنا، خوفزدہ ہونا، ہٹنا، دبنا، جی چرانا، پراگندہ دماغ ہونا، آپے سے باہر ہونا، دیوانہ ہو جانا۔ عن سے توجہ پھیرنا، کو بھلا دینا، نظر انداز کرنا، سے غفلت کرنا، تغافل کرنا۔ اَذْهَلَ ہ کو چکرا دینا، چونکا دینا، گھبرا دینا، حیرت میں ڈالنا، کے ہوش گم کرنا، کو پریشان کرنا۔ ہ عن کی سے توجہ ہٹانا، کو کچھ بھلا دینا۔ ذُهُول حیرانی، الجھن، گھبراہٹ، حیرت، سراسیمگی، پریشانی، بدحواسی، بے ہوشی، بے حسی، استعجاب کی حالت میں منہ کھلا کا کھلا رہنا، بوکھلاہٹ، پراگندگی، ہراس، خوف، دہشت، حیرانی، تعجب، اچنبھا، تحیر، ذہنی انتشار، پریشان خیالی، پراگندہ خیالی۔ عن سے توجہ ہٹنا، پھرنا۔ ذاهل بے پروا، غافل، بھولنے والا، تغافل شعار، دیوانہ، آپے سے باہر، کھویا ہوا، بے خیال، بے حواس، مدہوش، سخت حیرت میں۔ مَذْهُول پریشان، گھبرایا ہوا، حواس باختہ، دہشت زدہ، چھکے چھڑایا ہوا، سراسیمہ، حیران، الجھن میں پڑا ہوا، چکرایا ہوا حیران و پریشان، پاگل خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل، پراگندہ دماغ۔ مُذْهِل چونکا دینے والا، حواس باختہ کرنے والا، چکرا دینے والا، حیران کن، پریشان کن، حیرت انگیز۔ مُنْذَهِل گھبرایا ہوا، دہشت زدہ، چھکے چھڑایا ہوا، پریشان، حواس باختہ، حیران و پریشان، پاگل، سراسیمہ، خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل پراگندہ دماغ۔

ذهن ۱۔ ذَهَنَ ـ ذَهْناً الامر کسی امر کو سمجھنا کا ادراک کرنا، تیزی ذہن میں پر غالب آنا۔ اَذْهَنَ و استَذْهَنَ الرجل عن الامر کو کوئی کام بھلا دینا، فراموش کرا دینا۔ ذَهُنَ ـ ذَهاً الشىء کو سمجھنا۔ ذَهِنَ ذَهانةً اچھے حافظہ والا ہونا۔ ذَهِنَ کند ذہن ہونا۔ ذَاهَنَ ہ سے سمجھ سے بڑھ جانا کہا جاتا ہے: انہ يذاهن الناس و يفاطنهم وہ ان سے اپنے ذہن اور ہوشیاری سے مقابلہ کرتا ہے۔ الذِهْنجمع اَذْهان سمجھ، عقلی قوت، حافظہ، قوت۔ ما برجلى ذِهنٌ میرے پاؤں میں چلنے کی قوت نہیں ہے۔ الذَهَنجمع اَذْهان سمجھ، زیرکی، کہا جاتا ہے۔ هو من اهل الاذهان وہ زیرک لوگوں میں سے ہے۔ رجلٌ ذُهُنٌ و ذَهِنٌ ذکی و سمجھدار آدمی۔

۲۔ الذِهْنجمع اذهان چربی۔

○ ذِهْنجمع اَذْهان ذہن، دماغ، دل، عقل، فہم، فراست دانشمندی۔ ذهنى عقلی، شعوری، خیالی، ذہنی، دماغی۔ ذهنية ذہنیت، ذہنی قابلیت، افتاد طبع، رجحان۔

دها: ذَهَا ـ ذُهُوًا تکبر کرنا۔

ذو ۱۔ ذُو تثنية ذَوَانجمع ذَوُون صاحب، مالک اس کا اعراب اسمائے خمسہ کا سا ہے۔ ذُو اليدِ اَحَقّ قبضہ کرنے والا زیادہ حقدار ہے۔ ذَوُو الأَرحام رشتہ دار لوگ۔ ذا صاحب، یہ اسماء خمسہ میں سے حالت نصب میں ہے۔ کہا جاتا ہے۔ وجدتُه ذا صباح میں نے اسے بوقت صبح پایا۔

ذی صاحب، اسماء خمسہ میں سے ہے اور حالت جر میں ہے کہ کہا جاتا ہے۔ كان ذلك من ذى قبل یہ گزشتہ زمانہ میں تھا۔ جَاءَ من ذى نفسه وہ خوشی سے آیا۔ الـذَوُون و الأَذْواء شاہان یمن، ان کے ناموں کا آغاز لفظ ذو سے ہوتا ہے۔ مثلاً ذویزن، ذونواس و ذوریاش۔

۲۔ ذات ذو کا مونث۔ تثنیہ ذَوَاتاجمع ذَوَات اس کا اس کے تثنیہ و جمع کا اعراب انہیں کے مشابہ مفرد و تثنیہ جمع اسماء کا سا ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ لقيته ذاتَ يوم او ذات ليلةٍ او ذات مَرّةٍ میں نے اس سے ایک دن، ایک رات یا ایک مرتبہ ملاقات کی کہا جاتا ہے۔ كان ذلك ذاتَ العُوَيْم یہ گزشتہ سال تھا۔ جَلَسَ ذاتَ اليمين وہ دائیں جانب بیٹھا۔ لقيته اوّلَ ذات يَدَينِ میں سب سے پہلے اس سے ملا۔ القت الدجاجة ذات بطنها مرغی نے انڈا دیا یا بیٹ کی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ـــ الصدر سوچ یاراز للیمین سیدھی جانب،
دائیں جانب للبیّن حال کہا جاتا ہے لصلحوا
ذاتَ بینکم تم اپنی آپس کی حالت کو درست کرو۔
شفۃٍ کلمہ کہا جاتا ہے کلّمتہ فمارَدّ علیَّ ذاتَ
شفۃ میں نے اس سے گفتگو کی تو اس نے جواب میں
ایک کلمہ تک منہ سے نہیں نکالا للید ملکیت کہا جاتا
ہے قلَّت ذاتُ یدہ اسکی ملکیت تھوڑی رہ گئی۔
ـــ الجَنْب (طب) نمونیا کی بیماری ـــ الرئۃ
و ذات الصدر و ذات الکبد (طب) یہ پھیپھڑے،
سینے اور جگر کی بیماریوں کے نام ہیں ذاتُ الشیء
وہی چیز للذاتُ وہ چیز جو جانی جا سکے یا اسکی خبر دی
جا سکے للسم الذات عند النحاۃ (نحویوں کے
نزدیک) جو کسی ذات کے ساتھ لگایا جا سکے، جیسے
الرجل کالاسد اس کے مقابل اسم المعنی ہے جیسے علم،
شجاعت للذوات قوم کے بڑے لوگ للذاتی
ذات سے منسوب، ذاتی، ذات کا ذات کے متعلق۔

ذو (بحالت رفع) ذی (بحالت جر) ذا (بحالت
نصب) مونث ذات جمع ذَوُو (مذکر) اُولُو و
ذَوَات جمع مونث، مالک، رکھنے والا، قابض، آقا،
سے مزین و آراستہ یا فراہم شدہ۔ پر مشتمل۔
ذُو عَقْلٍ دماغ والا، ذہین، دانشمند ذُو مَالٍ امیر،
دولت مند ذُو صحۃ تندرست صحت مند ذو شان:
اہم ذو القُربیٰ رشتہ دار، عزیز غیر ذی زرع
غیر مزروعہ (زمین) من ذی قَبْلُ سے پہلے من
ذی نفسہٖ اپنی مرضی سے، خود بخود، طبعی طور پر۔
ذَوُوہ اس کے رشتے دار، اقارب، اعزاء، لوگ۔
ذو والمودّۃ والمعرفۃ اس کے دوست اور شناسا۔
ذَوُو الشُّبُہَات مشتبہ لوگ، بدنام لوگ ذَوُو الشان
اہم اور ذی اثر لوگ، مجاز لوگ، حکام، معاملہ سے متعلق
لوگ للولو الامر حکام، زعماء، رہنما للولو الحل
و العقد بااثر لوگ، بااقتدار لوگ، ذات جمع ذَوَات
ہستی، جوہر، قسم، نوعیت، خود، شخص، ذات، شخصیت،
وہی، ہو بہو، بعینہ، بجنسہ، خود، آپ للذَوَات رتبہ
والے لوگ، ممتاز لوگ، مشہور لوگ ذاتاً اصالتاً
بذات خود ذاتُ البین نااتفاقی، ان بن، نزاع،
پھوٹ، ناچاقی، تنازع، جھگڑا، بے آہنگی، اختلاف،
دشمنی، دوئی ذات الجَنْب، ذات الصدر، پھیپھڑے
کی جھلی کا ورم ذاتُ الرئۃ نمونیا۔ ذات الصدر،
سینہ کی بیماری ذات الید دولت، دولت مندی،
مرفہ الحالی ذات ایدینا ہماری چیزیں ذات
الیمین دائیں طرف ذاتَ الشمال بائیں
طرف ذات الیسار بائیں طرف ذاتَ مرّۃ
ایک دفعہ، ایک مرتبہ فی ذاتِ مرّۃ ایک دفعہ، ایک
مرتبہ ذاتَ یومٍ ایک دن فی ذات یومٍ ایک
دن فی ذات غدٍ آئندہ کبھی، جلد فی ذاتِ
کے بارے میں، بلحاظ، بحوالہ بالذات کے سوا کوئی
نہیں، سب کچھ، سب سے اصالتاً، بذات خود لندن
بالذات میں خود فی لندن بالذات سب
جگہوں میں سے لندن میں للسعادۃ بالذات اشد
ضروری، خوشی، اصلی خوشی ذاتُ نفسِہٖ ذاتُ انفسِہم
وہ خود (واحد و جمع) اسکی یا انکی وہی طبیعت ہو بذاتہ:
وہ خود ہو ذاتُہ: وہ خود ذاتُ الشیء : وہی
چیز ذاتُ الاشیاء چیزیں للسنۃ ذاتہا: اسی
سال لِذاتِہٖ خود اس کا خود، اسی حیثیت سے، اس
کی خاطر فی ذاتہ اسکی ذات میں فی حد
ذاتہ اسکی ذات میں قائم بذاتہ مستقل، خود
قائم، بالکل الگ، تنہا للثقۃ بالذات خود اعتمادی،
اعتماد بالذات حُبُّ الذات و مَحَبَّۃُ الذات :
انانیت، حب ذات للاعتماد علی الذات : خود
اعتمادی صریح بذاتہ : صاف ظاہر، بدیہی، اپنی
وضاحت آپ کرنے والا مُناقِضُ ذاتِہٖ خود
تردیدی للبن ذوات خاندانی ذَاتِی ذاتی،
خود تیار کردہ، خود پیدا کردہ، خود بخود، طبعی، فطرتی، بلا
ارادہ، خودرو، خود کرنے والا، خودکار، خود بخود کام کرنے
والا، نفسی، ذہنی، داخلی، موضوعی جمع اتیون : داخلیت
کے قائل ذاتیاً خود اصالتاً بذات خود للحکم
الذاتی خود مختاری، آزاد ریاست ذاتیۃ: شخصیت،
ذاتیت، (کسی شخص کی) شناخت تحقیق الذاتیۃ:
کسی شخص کی شناخت، نشاندہی لاذاتیۃ: غیر یالا
شخصیت۔

ذواتی اونچے درجہ کا، مخصوص، پرتکلف۔

ذاب: اذَابَ ـ ذَوْباً و ذَوَبَاناً الثلجُ او السمنُ
برف یا گھی کا پگھلنا للرجلُ ہمیشہ شہد کھانا ات
الشمسُ: سورج کی گرمی کا تیز ہونا ـ دمعُہٗ : کے
آنسو بہنا، کہا جاتا ہے ذَابَ جسمُ الرجل آدمی
کا جسم لاغر و دبلا ہو گیا۔ آدمی لاغر ہو گیا۔ ذَوَّبَ
السمنَ گھی کو پگھلانا لذَابَ اذابۃً السمنَ گھی کو
پگھلانا لِستَذَابَہٗ سے پگھلانے کی درخواست
کرنا للذَوْب: (مص) خالص شہد ذوبُ الذہب:
سونے کا پانی یا اس کو پگھلانے والا کہا جاتا ہے۔
۸ الکلامُ ذوبُ الروح یہ کلام روح پگھلانے
والا کھالی للمِذْوَبَۃ جمع مَذَاوِب چمچہ للاِذْوَاب
و الاِذْوَابَۃ: پگھلا ہوا مکھن کہا جاتا ہے ہو احلی
من الذوب بالا ذُوَابَۃ وہ مکھن سے ملے خالص
شہد سے زیادہ شیریں ہے۔

۲ ذَابَ ـ ذَوْباً و ذَوَبَاناً الرجلُ عقل مند ہونے
کے بعد بیوقوف ہو جانا للذَاب عیب للذَوْبَۃ
ذاب سے اسم مرۃ کہا جاتا ہے ظہرت منہ ذَوْبَۃٌ
اس سے حماقت ظاہر ہوئی۔

۳ ذَابَ ـ ذَوْباً و ذَوَبَاناً علیہ المالُ کو مال حاصل
ہونا کہا جاتا ہے ماذاب فی یدی منہ خیرٌ مجھے
اس سے ذرا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا ذابَ لی علیہ
حقٌ میرا حق اس پر واجب و ثابت ہوا لذَابَ اِذَابَۃً
حاجتَہٗ اپنی ضرورت پوری کرنا ـ القومُ امرہم
قوم کا اپنے معاملہ کو سدھارنا اِستَذَابَ حاجتَہٗ
اپنی ضرورت پوری کرنا ـ الشیءَ کو باقی رکھنا۔
الذَوْبَۃ مال کا بچا ہوا حصہ۔

۴ ذَوَّبَ الغلامَ: لڑکے کے گیسو بنانا، دیکھو ذَأَبَ۔

۵ لذَابَ اِذَابَۃً علی العدوّ دشمن پر لوٹ ڈالنا۔

ذَابَ ـ ذَوْباً و ذوباناً حل ہونا، پگھلنا، دھیرے
دھیرے دوسرے رنگ میں مل جانا، پانی ہو جانا، پتلا
ہونا، گھٹنا، سکڑنا، روبہ تنزل ہونا، معدوم ہو جانا، جاتا
رہنا، غائب ہو جانا حسرۃً واسیً: حسرت اور غم سے
گھل کر مر جانا ذابَ حیاءً شرمندگی سے مر جانا۔
ذابت اظفارُہ فی : کے لئے بے سود جد و جہد کرنا۔
سعی لا حاصل کرنا ذَوَّبَ ہ کو حل کرنا، پگھلانا، پانی
کرنا، پتلا کرنا لذَابَ ہ کو حل کرنا۔ (جیسے پانی میں
نمکیاں حل کرنا) کو پتلا کرنا، پانی کرنا، کو پگھلا کرنا
(دھات) کو پگھلانا، کو خرچ کرنا، برت ڈالنا، ختم کر
دینا۔ اڑا دینا، ضائع کرنا، کھا پی لینا، کا عرق نچوڑ لینا،
کی جڑیں کھوکھلی کرنا لذَابَ جُہدَہٗ: اپنی طاقت ختم
کر دینا لذَابَ عُصَارَۃَ مُخِّہٖ فی : میں دماغ پر
بہت زور دینا ذَوب: تجزیہ، تحلیل، محلول، پگھلانا،
گھلنا، پگھلنا، پانی کی طرح کر دینا، پانی بن جانا۔
ذَوَبَانُ الثلج (یا الثلوج) برف کا پگھلنا، برف
پھگنے کا موسم یا برف پگھلنے کی گرمی قابل لِلذَوَبان:
پگھلنے کے لائق، حل ہونے کے قابل، گھلنے کے لائق،
جو حل ہو سکے، تحلیل پذیر، انتشار پذیر تَذْوِیب:
تحلیل، حل، پگھلانا، بکھیلنا، پانی کی طرح کر دینا۔
اِذابۃ بمعنی تذویب ذَائِب: گلایا ہوا، پگھلایا ہوا
تحلیل کیا ہوا، پگھلی ہوئی (دھات) حل پذیر، تحلیل
پذیر، حل ہونے کے قابل، انتشار پذیر۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ذاج: ذاجَ ـُ ذَوْجًا جلدی کرنا ـ الماءَ پانی پینا۔

ذاح: ذاحَ ـُ ذوحًا تندی سے چلنا ـ وذَوَّحَ الابل اونٹوں کو متفرق کرنا، منتشر کرنا۔

ذاد ذَادَ ـُ ذَوْدًا و ذِيادًا ۂ کو دفع دور کرنا ـ دھتکارنا کہا جاتا ہے ـ ذاد الابلَ عن الماء اس نے اونٹوں کو پانی پر سے ہنکال دیا ـ وذَوَّدَ عن حسبه اپنے حسب کی حفاظت وحمایت کرنا صفت ـ ذائِد جمع ذُوَّد و ذُوَّاد و ذادة ـ اَذَادَ اِذادةً و اَذْوَدَ اِذْوادًا ۂ مدافعت پر کسی کی مدد کرنا ـ الذَوْد اونٹنیاں جن کی تعداد تین سے زیادہ اور تین سے کم نہ ہو ـ مونث ہے اس کا واحد نہیں ہوتا یا واحد ہے اور اس کی جمع اَذْوادٌ ہے ـ

الـمِذْوَاد بہت دفع کرنے والا، حقیقت کا حامی ـ

الـمَذَاد چراگاہ ـ الـمِذْوَد جس سے دفاع کیا جائے، جانوروں کا تھان، بیل کا سینگ، زبان ـ رجالٌ مَذَاوِدُ و مَذاوِيد اپنے شرف کا دفاع کرنے والے ـ

○ ذادَ ـُ ذَوْدًا و ذِیادًا بکھیر دینا، دور کرنا، بھگا دینا ہ / ہ عن کو سے ہٹانا ـ عن کا دفاع کرنا، کی حفاظت کرنا ـ ذادَالنومَ عن عینیه نیند کو کسی کی آنکھوں سے بھگا دینا، دور کرنا ـ ذَوْدعن کا دفاع، کی حفاظت ـ

ذِیادعن کا دفاع، کی حفاظت ـ مِذْوَد جمع مَذاوِد ناند تھان (جانوروں کا) پنالی ـ ذائِد جمع ذَادَة محافظ نگہبان، حافظ ـ

ذاط ذاطَ ـُ ذَوْطًا ۂ کا گلا گھونٹنا یہاں تک کہ زبان باہر نکل آئے ـ الاناءَ برتن کو بھرنا ـ

ذوط ـَ ذَوَطًا چھوٹی ٹھوڑی والا ہونا صفت ـ اَذْوَط

الـذَوْط ادنی درجہ کے لوگ ـ الـذُوْطَة جمع اَذْواط (ع) زرد پیٹھ والی مکڑی ـ

ذاع ذاعَ ـُ ذَوْعًا مالَهُ مال ودولت کو بالکل ضائع کر دینا ـ اَذاعَ اِذاعَةً القومُ بما في الحوض قوم کا حوض کے سارے پانی کو پی ڈالنا ـ الرجلُ بـمالِهِ اپنا مال لے جانا ـ

ذاق: ذاقَ ـُ ذَوْقًا و ذَوَاقًا و مَذاقًا الشيءَ کو چکھنا ـ العذابَ عذاب بھگتنا ـ ذَوْقًا و ذَوَاقًا الرجلَ و ماعند الرجل کو آزمانا، جانچنا کہا جاتا ہے ـ ما ذاقَ ذَواقًا اس نے کسی چیز کو نہیں آزمایا ـ اَذاقَ اِذاقةً الشيءَ کو کوئی چیز چکھانا ـ تَذَوَّقَ الشيءَ کو تھوڑا تھوڑا چکھنا ـ تَذاوَقَ القومُ الشيءَ لوگوں کا کسی چیز کو چکھنا کہا جاتا ہے ـ تَذاوَقُوا الرماحَ انہوں نے نیزوں کو ہاتھوں میں لے لیا، سنبھال لیا ـ اسْتَذاقَ ۂ کو آزمانا، کا تجربہ کرنا ـ لَهُ الامرُ کو با آسانی دستیاب ہونا ـ الذَوْق قوت ذائقہ، طبیعت کہا جاتا ہے: هو حسن الذوق للشعر اس نے شعر کے لئے اچھی طبیعت پائی ہے ـ

الذَوَاق مزہ (کہا جاتا ہے ذَوَاقُهُ طیّبٌ کا مزہ خوشگوار ہے) طبیعت ـ الذائقة قوت ذائقہ ـ

المَذاق مزہ کہا جاتا ہے ـ مَذاقُهُ طیّبٌ اس کا مزہ اچھا ہے ـ هو مُرُّ المَذاق اس کا مزہ کڑوا ہے ـ

○ ذاقَ ـُ ذَوْقًا و ذَوَاقًا و مَذَاقًا ہ (خوراک وغیرہ) چکھنا کا نمونہ دیکھنا ـ ہ کو آزمانا، کا تجربہ کرنا، کو آزما کر دیکھنا، کو تجربۃً استعمال کرنا، کو جانچنا، کا مزہ لینا، کی آزمائش کرنا، کو جھیلنا، برداشت کرنا، گوارا کرنا، کی کڑیاں جھیلنا، کی مشکلات میں سے گزرنا، کی تکلیفیں برداشت کرنا (مصیبت) اٹھانا ـ اَذاقَ ہ ہ کو کوئی چیز چکھانا، کو کسی چیز کا نمونہ دکھانا، کو کوئی چیز چکھنے کے لئے دینا ـ تَذَوَّقَ ہ کو آہستہ آہستہ چکھنا، بار بار چکھنا، پوری طرح چکھنا، کا مزہ لینا، کا احساس ہونا، کو سمجھ لینا ـ سے پوری طرح لطف اندوز ہونا، کا مزہ اٹھانا ـ من سے لذت یاب ہونا ـ ذَوْق جمع اَذْواق قوت ذائقہ ـ ذوق في کا ذوق (جیسے ادبی ذوق) (کے لئے) اثر پذیری ـ زود حسی، سریع الحسی، لطافت، انسانیت، خوش خلقی، سلیقہ، پسند، ذوق، رغبت، میلان، جھکاؤ، شوق، چاہ، مزہ، لذت، ذائقہ، مہک ـ الذوق السلیم اچھا ذوق ـ ذَوْقِي مزے کا، مزے دار، ذائقہ دار، لذیذ ـ

ذَوَاق مزہ ـ ذَوّاق خوش خوراک، لذیذ کھانوں اور شرابوں کا شوقین، صاحب ذوق کھانوں اور شرابوں کا مبصر ـ مَذَاق مزہ ـ ذائقة مزہ ـ قوت ذائقہ ـ

ذوی: ذَوَی ـِ و ذَوِیَ ـَ ذَوِیًّا النباتُ پودہ کا مرجھانا، سوکھنا ـ اَذْوَی اِذْواءً ۂ کو مرجھا دینا، خشک کرنا ـ

ـ الذِوی بکری کے چھوٹے بچے ـ الذُواة تربوز انگور وغیرہ جیسی اشیاء کا چھلکا ـ

○ ذاوٍ مرجھایا ہوا، پژمردہ، سوکھا ہوا، جھکا ہوا ـ ذِی وهٰذی مونث قریب کے لئے اسم اشارہ یہ ـ ذی دیکھو ذو ـ

ذیت: ذَیْتَ ذَیْتَ (تکرار یا عطف کی وجہ سے) بات یا کام کے لئے کنایہ ہے ـ جیسے قلتُ له ذيت ذيت میں نے اس سے ایسا ایسا کہا ـ یا فعلتُ ذيتَ ذيتَ میں نے ایسا ایسا کیا، اسی طرح ذَیًّا ذَیًّا اور ذَیَّة ذَیَّة کا حال ہے ـ

ذاج: ذاجَ ـِ ذَیْجًا الماءَ پانی پینا ـ ذایَجَ مُذایَجَةً ۂ کے ساتھ مل کر پینا ـ

ذاخ: ذَیَّخَت النخلةُ کھجور میں قلم نہ لگنا، گابھا نہ لگنا ـ

اَذاخَ اِذاخةً بني فلان کو ذلیل کرنا ـ ___ بالمکان جگہ کے ارد گرد چکر لگانا، کے آس پاس گھومنا ـ الذِیخ جمع اَذیاخ و ذُیوخ و ذِیخة (ح) دلیر بھیڑیا ـ (اس کی مادہ ذیخۃ) (ح) زیادہ بالوں والا سربجو (ح): گھوڑا، تکبر (فک) ایک سرخ رنگ کا ستارہ ـ

ذار: ذارَ ـِ ذَیْرًا ۂ کو ناپسند کرنا ـ

الذِیرة مٹی ملا گوبر ـ

ذاع: ۱ ـ ذاعَ ـِ ذَیْعًا و ذُیُوعًا و ذَیْعُوعَةً و ذَیَعانًا الخبرُ خبر کا پھیلنا ـ کہا جاتا ہے ـ ذاعَ في جلده الجربُ اس کی جلد میں کھجلی سب طرف سرایت کر گئی ـ اَذاعَ اِذاعةً الخبرَ و بالخبر خبر پھیلانا، نشر کرنا ـ السرَّ و بالسرِّ راز ظاہر کرنا ـ اِنْذاعَ الخبرُ خبر کا پھیل جانا ـ الاذاعة (مص) ریڈیو جیسے الاذاعة اللبنانية ریڈیو لبنان یعنی الراديو اللبناني ـ دار الاذاعة ریڈیو اسٹیشن ـ المِذیاع میکروفون، ریڈیو ـ جمع مَذَایِیع وہ شخص جو اپنے راز کو نہ چھپائے، آپ کہتے ہیں ـ فلانٌ للاسرار مِذیاعٌ و للاسباب مِضْیاعٌ فلاں شخص رازوں کو افشا کرنے والا اور اسباب کو ضائع کرنے والا ہے ـ

۲ ـ اَذاعَ اِذاعةً القومُ ما في الحوض او بمافيه لوگوں کا حوض کے تمام پانی کو پی جانا ـ ___ بالشيءِ چیز کو لے جانا ـ

○ ذاعَ ـِ ذُیُوعًا پھیلنا، گردش کرنا، نشر واشاعت ہونا، دور تک پھیلنا، افشا ہونا، قبل از وقت معلوم ہونا، بات کا کھل جانا، عام لوگوں کو معلوم ہونا، عام لوگوں کے علم میں ہونا ـ اَذاعَ ہ / ب کو پھیلانا، کی نشر واشاعت کرنا، کی اشاعت کرنا، کا اعلان کرنا، کو عوام کے علم میں لانا، کو شائع کرنا، منتشر کرنا، کو دکھانا، فاش کرنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا، عیاں کرنا، آشکارا کرنا، صاف صاف دکھانا، کی گواہی دینا، منکشف کرنا، افشا کرنا ـ ہ (برقی رویں) چھوڑنا، کو براڈ کاسٹ کرنا، ارسال کرنا ـ ہ علی ریڈیو کا کوئی خبر عوام کے لئے براڈ کاسٹ کرنا ـ

اَذاعَ بالتلفزة ہ کوئی چیز ٹیلی کاسٹ کرنا ـ ذُیُوع دور تک پھیلا ہونا، عام ہونا، پھیلنا، پھیلاؤ، منتشر ہونا یا ہونا، انتشار، نفوذ (خبروں کی) گردش ـ مِذْیاع جمع مَذایِیع چغل خور، راز افشا کرنے والا، بدگو، غیر دانشمند شخص، ریڈیو ٹیشن، براڈ کاسٹنگ سٹیشن، براڈ کاسٹنگ، مائیکروفون، ریڈیو سیٹ ـ اِذاعَة پھیلانا، افشا کرنا، اشاعت اعلان، باضابطہ اعلان، شائع شدہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(کتاب وغیرہ) اظہار، افشاء، انکشاف، منکشف کرنا، پلے بیک (ٹیپ کا) براڈ کاسٹنگ، ریڈیو جمع اذاعات (ریڈیو) براڈ کاسٹ، ارسال۔ اذاعة تلفزیونیة ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ۔ اذاعة لاسلکیة اور اذاعة رادیو فویة ریڈیو براڈ کاسٹ، براڈ کاسٹنگ، ریڈیو۔ اذاعة البولیس پولیس ریڈیو۔ مَحَلَّةُ الاذاعَة ریڈیو میگزین، ریڈیو کا مجلہ۔ ذائِع دور دور تک پھیلا ہوا، عام، گردش کناں، زیر گردش، بہت لوگوں کو معلوم۔ ذائِعُ الصیت مشہور، بہت مشہور۔ مُذِیع پھیلانے والا، افشا کرنے والا، اشاعت کرنے والا، اعلان کرنے والا، براڈ کاسٹ کرنے والا، ارسال کرنے والا (ریڈیو) ٹرانسمیٹر، ریڈیو اناؤنسر (اعلان کرنے والا) مُذیعَة جمع مذیعات خاتون اناؤنسر (ریڈیو)

•

ذیف الذَیُفان و الذِیفان و الذیقان زہر قاتل۔

ذال ذالَ ـِ ذَیْلاً الثوبُ کپڑے کا اتنا لمبا ہونا کہ زمین کو چھوئے۔ الطائر پرندہ کا اپنی دم کو کھینچنا یا پھیلانا۔ الناقة بذَنَبِها اونٹنی کا اپنی دم کو اپنی رانوں پر پھیلانا۔ ت الجاریةُ لڑکی کا دامن گھسیٹتے ہوئے ناز و انداز سے چلنا۔ فلانٌ اِلی فلان سے گستاخی کرنا۔ ذَیَّلَ الثوبَ کپڑے کو لمبا کرنا۔ الکتابَ کتاب کے آخری میں کچھ لکھنا۔ اَذَالَ اِذالَةً و اَذْیَلَ اِذیالاً الثوبُ کپڑے کا دامن والا ہونا۔ الرجلُ ثوبَهُ کپڑے کا دامن بنانا، دامن کو دراز کرنا۔ المراةُ قِناعَها عورت کا برقع کو لٹکانا۔ الدمعَ آنسو بہانا۔ تَذَیَّلَتِ الجاریةُ لڑکی کا دامن کھینچتے ہوئے انداز سے چلنا۔ فی الکلام بغیر جھجکنے کے بہت کلام کرنا۔ الفرسُ فی استنانه ای فی عَدْوِہ گھوڑے کا دوڑنے میں خوشی سے دم ہلانا۔ الذَیْل جمع اَذْیال و ذُیُول و اَذْیُل چیز کا آخر کہا جاتا ہے۔ طَالَ ذَیلُهُ اسکی حالت اچھی ہوگئی اور مال دولت کی کثرت ہوگئی۔ ذیلُ الثوب کپڑے کا دامن۔ ذیل الریح ریت پر ہوا کے نشانات، زمین پر ہوا کی لائی ہوئی خاک۔ الفرس گھوڑے کی دم۔ اَذْیالُ و ذُیُولُ الناس اَدنیٰ درجے کے لوگ۔ الذَائِل (ف) دامن والا۔ درعٌ ذائِلٌ او ذائِلَةٌ دراز دامن والی زرہ۔ الذَیّال لمبے دامن والا۔ ثوبٌ مُذَالٌ لمبے دامن والا کپڑا۔ درعٌ مُذَالَة لمبی زرہ۔ المِذْیَال لمبے دامن والا (مذکر و مونث دونوں کے لئے)۔

۲۔ ذَالَ ـِ ذَیْلاً الشَیءُ ادنیٰ ہونا۔ تَ حالُهُ پست و فروتر ہونا۔ اَذَالَ اذالَةً و اَذْیَلَ اِذیالاً ہُ کی تحقیر کرنا۔ فرسَهُ او غلامَهُ گھوڑے یا غلام کی دیکھ بھال نہ کر کے اس کو لاغر و دبلا کرنا۔ مالَهُ کا مال خرچ کرنا۔ تَذَایَلَ ت حالُهُ کی حالت کا پست و فروتر ہونا۔ الذیْل جمع اذیال و ذُیُول و اَذْیُل حقیر حیثیت کہا جاتا ہے۔ هو فی ذیلٍ ذائِل وہ سخت حقیر حالت میں ہے۔ المُذَالَة باندی، لونڈی مثل ہے۔ اخیلُ من مذالة باندی سے زیادہ متکبر۔

۳۔ ارضٌ مُتَذَیِّلة وہ زمین جس پر ہلکی سے بارش ہوئی ہو۔

○ ذَیَّلَ ہ (خصوصاً کتاب) کتاب میں ضمیمہ یا تتمہ لگانا، کا اضافہ کرنا۔ ہ کے ساتھ آخر میں کوئی چیز لگانا۔ اَذَالَ ہ کو روندنا، پامال کرنا، کو کم رتبہ کرنا، کو بے قدر کرنا۔ ذیل جمع ذُیُول و اَذیال چیز کا سب سے نیچے یا پیچھے کا حصہ۔ نچلا سرا، دم، سنجاف، مغزی، گوٹ، جھالر، حاشیہ، کنارہ (کپڑے کا) پوشاک کا دامن، شملہ، دنبالہ، کوٹ کے گریبان کی لوٹ (صفحہ کا) نچلا حصہ۔ تتمہ، ضمیمہ، اضافہ، ذیل، ملحقات، نوکر چاکر، خدم و حشم، نتیجہ۔ فی ذیلہ اس کے فوراً بعد۔ طاهر الذیل معصوم، بے قصور، بے گناہ، دیانتدار۔ طهارة الذیل بے گناہی، معصومیت اخلاقی، دیانت داری، ایمانداری۔ طویلُ الذیل لمبا، طویل دور تک پھیلا ہوا، بڑا، پورا۔ تَمَسَّكَ باذیاله کا دامن پکڑنا۔ جرّ علیه ذیلَ العفاء کا نام و نشان مٹا ڈالنا۔ لاذباذیال الشیء کسی چیز سے رجوع کرنا۔

ذام: ذَامَ ـِ ذَیْمًا و ذامًاهُ پر عیب لگانا، کی مذمت کرنا صفت۔ مَذِیم و مَذْیُوم۔ الذام و الذَیْمَ عیب مذمت نقص، برائی۔

ذین: الذِین عیب۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ر

تلفظ الراء۔ حروف تہجی کا دسواں حرف اور حروف ابجد میں ۲۰۰ سے عبارت ہے۔

رأب: الرأب۔ رأبا الصدع: ترخن کی مرمت کرنا، اصلاح کرنا، شگاف پُر کرنا۔الشیءَ: کو جمع کرکے نرمی سے باندھنا۔ بینهم: کے درمیان صلح کرانا۔ ارتأب: ارتأبا الصدع: ترخن کی مرمت کرنا، اصلاح کرنا، شگاف پُر کرنا۔الرأب (مص) جمع رِئاب: ترخن، شگاف، پھٹن، سردار۔ کہا جاتا ہے: کفی فلان رأبا لامرك: تمہارے کام کی درستی کے لئے فلاں شخص کافی ہے۔الرُّؤْبَة جمع رِئاب و رُؤْبات: لکڑی وغیرہ کا ٹکڑا، وہ چیز جس سے کسی چیز کی پھٹن کو درست کیا جائے، شگاف پاٹا جائے۔ الرِّئاب: اصلاح کرنے والا۔ کہا جاتا ہے هو رِئاب بني فلان: وہ فلاں قبیلہ کا مصلح ہے۔المَرْأب: کاروں، موٹر سائیکلوں کا ورکشاپ، یا ان کی مرمت گاہ، گیراج، موٹر خانہ۔

۲۔رأب: رأبات الارضُ: سبزی کاٹنے کے بعد زمین کا سرسبز ہونا۔

۳۔الرُّؤْبَة جمع رِئاب و رُؤْبات: گاڑھا دودھ، رات کی گذری ہوئی ایک گھڑی۔

۴۔رَأْبَلَ رَأْبَلَةً: چلنے میں ایک طرف جھکنا۔ترأبل القوم: چوری کا پیشہ اختیار کرنا۔ علیه: پر غارت ڈالنا، شیر کا سا فعل کرنا (یعنی شیر کی طرح حملہ کرنا)۔الرِّئبال و الرِّیبال جمع رَآبِیل و رَآبِلة و رَیابیل (ح): شیر (ح): بھیڑیا۔

راء: حرف "ر" کا نام۔

رئة جمع رئون و رئات: پھیپھڑا۔ رئوی: پھیپھڑوں کا، شُش، شُش کی خرابی یا ورم شُش کا، نمونیائی، پھیپھڑوں سے متعلق۔

رَأَّب رَتْبأَه: شگاف وغیرہ کی مرمت کرنا، کار وغیرہ کو جوڑ جاڑ کر ٹھیک کر لینا، کی تصحیح کرنا، کو ترتیب سے لگانا، سیدھا کرنا۔ رُؤْبَة: ٹکڑا (شگاف وغیرہ کی مرمت کرنے کے لئے)۔مِرْأب جمع مَرائِب: مرمت کرنے کی دوکان، موٹر خانہ، گیراج۔

رابور: رپورٹ۔

راتینج: الراتینج (ل): گندہ بروزہ، بروزہ، صنوبر کا گوند۔

راد: الرؤد۔ رُؤُودَةً الغصنُ: شاخ کا بہت تر اور نازک ہونا۔ صفت رَؤْد۔ ترأدت الریحُ: ہوا کا ادھر ادھر چلنا۔ الرجلُ: بوڑھے آدمی کا اٹھنے میں کانپنا۔ و ارتأد الغلامُ: خوشی سے لڑکے کا ہلنا۔ الغصنُ: شاخ کا جھکنا۔ العنقُ: گردن کا پیچ کھانا۔الرَّأْد و الرَّأْدَة و الرُّؤْدَة و الرَّؤُودَة: جوان حسین عورت۔الرُّؤْد: جوان حسین عورت، مزاج کی نزاکت، سہولت، نرمی۔الرِّئْد جمع أرْآد: نئی شاخ یا نرم شاخ (درخت یا پودے کی)۔

۲۔ترأد و ترأد الضحی: روشنی کا پھیلنا، دن چڑھنا۔رَأْدُ و رائدُ الضحی: چاشت، آفتاب کے بلند ہونے اور روشنی پھیلنے کا وقت۔

۳۔الرُّؤْد و الرَّأْد: کان کے نیچے جبڑے کی اٹھی ہوئی ہڈی۔الرِّئْد جمع أرْآد: ہم عمر۔ کہا جاتا ہے: هذا رِئْدِي: یہ میری عمر کا ہے۔

۴۔الرَّادْیُولا (ن): کتان جیسے ایک پودے کی جنس۔

رَؤْد: نرم، نازک۔رُؤْد و فتاة رُؤْد: نازک بدن نوجوان لڑکی۔رِئْد جمع أرْآد: ہم عمر، ہم عصر۔

رادار: راڈار، لاسلکی آنکھ (radar)

رَادِیکالی: انتہا پسندانہ، انتہا پسند گروہ کا رکن۔

رادیو: ریڈیو۔

رَادِیُولوَجِی: تاب کاری طب۔

رَادِیُوم: ریڈیم۔ ذُوُ رَادیوم فاعل: تابکار۔

رأر: رَأْرَأَ: پتلی پھرانا، تیز دیکھنا۔ بعینیه: آنکھوں کو حرکت دینا اور گھمانا۔ صفت رَأْرَا مونث رَأْرَأ و رَأْرَأة و رَأْرَاء و رَأْرَاءَة۔ ۔ ت الظباءُ: ہرنیوں کا دم ہلانا۔ السحابُ او السرابُ: بادل یا سراب کا چمکنا۔ الرجلُ: پڑھتے اور بولتے ہوئے حرف راء زیادہ بولنا۔

رَأْرَأَ بعینیه: آنکھیں گھمانا، مٹکانا۔

رأس: الرأس ـ رِئاسةَ القومَ: قوم کا سردار ہونا۔ رَؤُسَ ـ رِئاسةً: سردار ہونا۔رأّسَهُ: کو سردار بنانا۔ترأّسَ و اِرْتأسَ: سردار ہونا۔الرّأس: قوم کا سردار۔الرّائِس (فا) جمع رُؤّاس: حاکم۔ الرَّئِیس جمع رُؤَساء: قوم کا سردار، پیشوا (ا ع): فوجی رتبہ جو نقیب کے برابر ہے، کیپٹن (آرمی کا)، لفٹیننٹ (بحریہ کا)۔الرِّئّیس جمع رُؤَساء: قوم کا سردار، پیشوا (مو): دو نالی بانسری۔الرِّئّیس: مضبوط سرداری والا۔المَرْؤُوس: ماتحت (سردار کا)۔

۲۔رَأَسَ ـ رَأْساً هُ: کے سر پہ مارنا۔رَئِسَ: سر میں تکلیف محسوس کرنا۔ارْتأسَ هُ: کو گردن سے پکڑ کر اسے زمین کی طرف جھکانا۔ الشيءَ: کے سر پر سوار ہونا۔الرَّأس جمع أرْؤُس و رُؤُوس و رُؤْس و آرَاس (ع ا): سر (انسان یا جانور کا)، مویشی۔ (چنانچہ کہا جاتا ہے اربعون رأساً من الغنم: چالیس راس مویشی)، چیز کا سب سے بلند حصہ۔ او ما یسمونه بالبنجق (مو): بربط کی

گردن کے بعد پچھلی طرف پھینکی ہوئی برچھی کی شکل کا
آخری جزء۔راس الشهر او العام: مہینہ یا سال کا
پہلا دن۔کہا جاتا ہے فعله راساً: اس نے اس کو
ابتداء میں کیا۔ولدت ثلاثةً راساً على راسٍ
اس نے تین بچے یکے بعد دیگرے جنے۔رُمیتُ
منك فی الراس میرے متعلق تمہاری رائے اس
قدر بری ہے کہ تم میری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔
هذا قِسمٌ براسه یہ خود مستقل ایک قسم ہے۔
انت على راس امرك تم اپنے کام کے سرے
پر ہو۔راسُ السیف کا قبضہ۔کہا جاتا ہے انت
على رئاسِ امرك تو اپنے کام کے سرے پر ہے۔
الرَئیس زخمی سروالا یا سر کی تڑکی ہوئی ہڈی والا۔
الرُؤَیس (ن) پھول اور شگوفے نکلنے کے نظام کی
ایک شکل۔الأرْأس مونث رَأساء بڑے سروالا۔
المِرْأس سریاں بیچنے والا۔المِرْآس من الخیل:
گھڑ دوڑ میں دوسرے گھوڑوں کے سروں کو کاٹنے والا
گھوڑا، گھڑ دوڑ میں سبقت لیجانے والا گھوڑا۔
المَرْؤُوس: بڑے سروالا، زخمی سروالا۔الرَوَائِس
واحد رَئِیسَة اگلے بادل، وادیوں کے بالائی حصے۔
الرُؤَاسِی بڑے سروالا۔
۳۔رَأسَ - رَأْسًا السیلُ الغُثَاءَ سیلاب کا کوڑا
کرکٹ جمع کرنا۔
رَأسَ - رِئَاسَةً ہ: کا سربراہ ہونا، صدر ہونا، صدر
جلسہ ہونا، کرسی نشین ہونا، نگران ہونا، کی صدارت کرنا،
کا سردار ہونا، صدر ہونا (کسی جماعت کا) امیر ہونا، کی
راہنمائی کرنا، کا اہتمام کرنا، کی ہدایت کاری کرنا، کا
انتظام کرنا، کو چلانا، کا بندوبست کرنا۔رَؤُسَ -
سردار ہونا، صدر ہونا، راہنما ہونا۔رَأسَ ہُ کو بطور
صدر، رہنما، سردار حاکم، امیر یا بڑا افسر مقرر کرنا، کو
ہدایت کار یا رہنما بنانا، کو ہدایت کاری انتظام والصرام
میر مجلسی یا عہدہ صدارت سونپنا۔تَرَأَّسَ: بمعنی
رَأسَ۔اِنْتَرَسَ: سردار، رہنما، حاکم، امیر ہونا یا بن
جانا، سربراہ، یا ہدایت کار یا ڈائریکٹر ہونا یا بن جانا۔
رَأس (مذکر و مؤنث) جمع رُؤُوس و ارْؤُس:
سر، راس (چوپایہ کا)، سردار، مکھیا، سالار، سرخیل، قائد،
فوجی سردار، ڈاکوؤں کا سرغنہ، سربراہ رہنما، بالائی
حصہ، بالائی سرا، نوک، چوٹی، سب سے بلند حصہ،
راس، مثلث کا راس، چندیا، حد، انتہا، کنارا، خاتمہ،
اختتام، انجام۔ سمندر میں دور تک گئی ہوئی چٹان،
گردنہ، بڑا حصہ، شروع، آغاز۔رأسًا براہ راست،
فی الفور، اک دم، اسی وقت، فوراً، بلا تاخیر۔راسه
مستقل، بالکل الگ، بجائے خود ایک درجہ میں، خود
مکتفی۔عِلمٌ براسه. سائنس بجائے خود، بذاتہ یا
بنفسہ۔رأس بِرأس (دونوں) یکساں، ایک ہی
طرح، ایک دوسرے کی طرح، بلا امتیاز۔على راسِ:
کے سرفہرست، کے خاتمہ پر، کے شروع میں، سے
پہلے۔على الراسِ و العین بڑی خوشی سے، جیسا
آپ چاہیں، خدمت کے لئے تیار، حاضر۔على
رَؤُوس الاشهاد: کھلم کھلا، علی الاعلان، ساری دنیا
کے سامنے۔رأسًا على عَقِبٍ. بالکل الٹا، اوندھا،
الٹ پلٹ، درہم برہم، ابتری افراتفری۔قَلَبَهُ راسًا
على عقب: کسی چیز کو بالکل الٹایا اوندھا کر دینا، کو
درہم برہم کر دینا۔من الراسِ اِلى القدم یا من
الراس اِلى اَخمصِ القدم: سر سے پاؤں تک، از
سرتاپا۔رفع به راساً: کی طرف توجہ کرنا۔راسُ
الآفات برائی کی جڑ۔راس مال جمع رُؤُوس
اموال: سرمایہ۔راس تَنُورَة: تیل کا مرکز (مشرقی
سعودی عربیہ میں)۔راسُ ثُوم: لہسن کی پوتھی۔
راسُ الجِسْر. سرحدی دریا کے پار دشمن کے علاقہ
میں بنا ہوا مورچہ۔راس حَامِیَة: جوشیلا شخص، تیز
مزاج، چلتا پرزہ، دلیر، عاقبت نااندیش، مفسد، فتنہ
انگیز۔راسُ السنة: نیا سال۔راسُ العمود:
ستون یا چوکور ستون کا بالائی حصہ۔راسُ الکتاب:
خط پر اپنا چھپا ہوا پتہ، خط لکھنے کا کاغذ جس پر اپنا پتہ چھپا
ہوا ہو۔مَسْقَطُ الراس: جائے پیدائش، آبائی شہر،
قصبہ، گاؤں وغیرہ۔سَمْتُ الراس: سمت الراس،
پورا عروج۔البلد الراس: دار الحکومت۔رُؤُوسُ
الاصابع: پیر کی انگلیوں کا اگلا حصہ۔رأسی: سر کا،
سر کے متعلق، بڑا، خاص، اول، اعلیٰ، سیدھا، کھڑا،
عمودی مستقیم۔رَاسمالی: ساہوکارانہ، سرمایہ دارانہ
جمع اسمالیون: ساہوکار، سرمایہ دار، دھنی، پونجی
والا۔رأسمَالِیَة: سرمایہ داری، سرمایہ داری کے اصول۔
رئیس جمع رُؤَساء: سربراہ، نگران، سرگروہ، پیشوا،
سردار، رئیس، صدر، رہنما، آقا، مالک، حاکم، افسر،
ڈائریکٹر، ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، چیئرمین، گورنر، پریذیڈنٹ،
منیجر، سپرنٹنڈنٹ، بینڈ ماسٹر، بڑا، بالاتر، کیپٹن (عسکری)
رئیس اول: فوجی رتبہ کیپٹن اور میجر کے درمیان کا۔
رئیس الأساقِفَة: لاٹ پادری۔رئیس البلدیة:
میئر۔رئیس التحریر ایڈیٹر انچیف۔رئیس
ارکان الحرب: چیف آف جنرل سٹاف۔رئیس
التشریفات. چیف آف پروٹوکول، ماسٹر آف سیریمنیز۔
رئیس الأ[illegible] archdeacon آرچ ڈیکن
(اسقف سے نیچے)۔رئیس عُرَفَاء ماسٹر
سارجنٹ۔رئیس الأقسام: (ریلوے میں)
ٹیکنیکل ڈائریکٹر جنرل۔رئیسُ النُوّاب پارلیمنٹ
کا پریذیڈنٹ، ایوان زیریں کا سپیکر۔رئیسُ هَیئةِ
ارکان الحرب: چیف آف جنرل سٹاف۔رَئِیسُ
الوزراء وزیر اعظم۔رئیسُ الوزارة وزیر اعظم۔
رَئِیسة خاتون منیجر، خاتون ڈائریکٹر، زنانہ مذہبی
گروہ کی سربراہ۔رَئِیسی. بڑا، خاص، اہم ترین۔
دَوْرٌ رئیسی: ہیروئن کا کردار، ہیرو کا کردار۔سبب
رئیسی: بڑا یا اہم مقصد یا نصب العین، بڑی وجہ۔
شارعٌ رَئِیسِی: بڑی سڑک۔للفضائل الرئیسیة:
اصلی نیکیاں۔مقالة رَئِیسِیة: ایڈیٹوریل، افتتاحیہ،
اہم مضمون، مقالہ افتتاحیہ۔رَیِّس، بمعنی رئیس:
(بحریہ کا) میٹ (کیپٹن سے نچلے درجہ کا)۔رَیِّس
مُمْتَاز: درجہ سوم کا چھوٹا افسر، (بحری فوج میں)۔
رِئَاسَة و رِیَاسَة (نیز رآسة): قیادت، رہنمائی،
رہبری، قیادی حیثیت، بندوبست، انتظام، دیکھ بھال،
ڈائرکشن، میر مجلسی، عہدۂ صدارت، منصب صدارت،
نگرانی۔رئاسة الوزراء: وزیر اعظم کا عہدہ۔ مدار
المہام کا عہدہ۔دارُ الرِیاسَة: ایوانِ صدر۔تَرَؤُّس
انتظام، بندوبست، دیکھ بھال، ڈائریکشن، میر مجلسی،
عہدۂ صدارت۔رَوَائِس: وادی کی کھڑی چٹانیں۔
مَرْؤُوس: ماتحت، جمع مَرْؤُوسُون: ماتحت، سبالٹرن،
لفٹین، لفٹیننٹ۔
راف: رَأَفَ - رَأْفَةً و رَؤُفَ - رَآفَةً و رَئِفَ - رَأْفًا
و ترَأَّفَ به: پر بہت مہربانی کرنا۔صفت رَؤُوف و
رَؤُف و رَأْف و رَئِف و رَائِف۔رَأَّفَ و اِسْتَرْأَفَ
ہُ: کو منانا، راضی کرنا، رحم کرنے پر اُکسانا۔تَرَأَفُوا
ایک دوسرے پر مہربانی کرنا۔المُرْأَف شراب۔
رَأَفَ - و رَؤُفَ - رَأْفَةً و رَآفَةً ب پر مہربانی کا
اظہار کرنا، مصیبت میں کسی کے کام آنا یا اس کی مدد کرنا،
پر مہربانی کرنا، مہربان ہونا، رحیم و کریم ہونا۔تَرَأَّفَ
بمعنی راف به۔رَأْفَة و رَآفة رحم، ترس، مہربانی،
نوازش، کرم۔رَؤُوف: رحم کرنے والا، مہربان،
رحیم و کریم، رحم دل، ترس کھانے والا، فیض رساں۔
اَرْأَف: زیادہ مہربان، زیادہ رحیم و کریم۔ب. پر،
کے بارے میں)
رَافِیا: ایک قسم کی کھجور کے درخت کے پتوں کا لمبا اور
پتلا مواد جو چٹائیاں وغیرہ بننے میں استعمال کیا
جاتا ہے۔
اِسْتَرْأَلَ الرَأْلُ: شتر مرغ کے بچے کا مضبوط

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونا۔ ــ النباتُ سبزی کا دراز ہونا، نباتات کا اونچا ہونا۔ الرَأْلُ مونث رَأْلَة جمع رِئَال و اَرْؤُل و رِئْلان و رِئَالة (ح) شترمرغ کا بچہ۔ ــ نعامة مُرْئِلَة بچے والی مادہ شترمرغ۔ المُرَائِل جلدی کرنے والا۔

۳۔ الرُؤَال گھوڑے کے منہ کی جھاگ۔ الرَائِل و الرَاؤُول دانت کے پیچھے زائد نکلا ہوا دانت، ٹیڑھا دانت۔

رام ۱۔ رَأَم ۔ رَأْماً القِدْحَ تیر کی چھڑ یا تیر کو درست کرنا، کی اصلاح کرنا یا مرمت کرنا۔ رَئِم ۔ رَأْماً و رِئْمَاناً الجرحُ زخم کا انگور بندھنا۔ اَرْأَمَ اِرْآماً الجرحَ زخم کو علاج کر کے اچھا کرنا۔

۲۔ رَأَم رَأْماً الحبلَ رسی کو مضبوط بٹنا۔ اَرْأَمَ اِرْآماً الحبلَ رسی کو مضبوط بٹنا۔

۳۔ رَئِم ۔ رَأْماً و رِئْمَاناً الشیءَ سے محبت کرنا، الفت کرنا۔ ــ تِ الناقةُ ولدَها اونٹنی کا اپنے بچے پر مہربان ہونا صفت: رائِم و رائِمَة و رَؤُوم جمع روائِم۔ مثل ہے: ظِئْرٌ رَؤُومٌ خیرٌ من اُمٍّ سَؤُوم۔ اجنبی دودھ پلانے والی جو دودھ پینے والے بچہ پر مہربان ہو اس ماں سے بہتر ہے جو اپنے بچے سے اکتا جائے اور اس کی پرورش نہ کرے۔ کہتے ہیں: هو رَؤُومٌ للضیم وہ ذلیل ہے اور ذلت پر راضی ہو جانے والا ہے۔ اَرْأَمَ اِرْآماً الناقةَ اونٹنی سے دوسری کے بچے سے محبت کرانا۔ ــ ہٗ علی الأمر کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ تَرَأَّمَہٗ و تَرَأَّمَ علیہ پر رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ الروائِم چولھے کے پتھر۔

۴۔ الرِئْم مونث رِئْمَة جمع اَرْآم و آرام (ح) سفید ہرن۔ الرُؤَام لعاب۔

○ رَأَم رَأْماً ہٗ کی مرمت کرنا۔ رَئِم ۔ رِئْمَاناً ہٗ سے شفقت کے ساتھ محبت کرنا، بے حد پیار کرنا، کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، کے ساتھ محبت سے کھیلنا، کو پچکارنا، سے پیار کرنا، پر ہاتھ پھیرنا، کو سینے سے لگانا۔ رِئْم جمع اَرْآم سفید آہو کی ایک قسم۔ رَؤُوم اپنے بچے کے ساتھ محبت کرنے والی، شفیق (ماں)۔ رام اللّٰہ: مغربی اردن کے ایک شہر کا نام جو یروشلم کے شمال میں واقع ہے۔

○ رَامِیَة: چینی پٹ سن۔

○ رَاوَنْد: جھگڑا، گرماگرمی۔ (۲) باغوں کا ایک پودا جس کی ڈنڈیاں موٹی اور سرخ ہوتی ہیں اور پکا کر پھل کی طرح کھائی جاتی ہیں۔ (۳) ایک لفظ جسے اکٹروں کا ایک گروہ سٹیج پر دہراتا ہے، تاکہ ایسا تاثر دیں کہ بہت سے لوگ بیک وقت بول رہے ہیں۔

رای ۱۔ رَأَی یَرَی رَأْیاً و رُؤْیَةً وَرَاءَةً و رِئْیَاناً: آنکھ یا عقل سے دیکھنا۔ یَرَی اصل میں یَرْأَی ہے، تاہم اصل کا استعمال نادر ہے۔ اس سے امر کا صیغہ رَ ہے۔ ــ رَأْیاً الرایةَ جھنڈا گاڑنا۔ ــ الزَنْدَ چقماق سے آگ روشن کرنا۔ ــ الزَنْدُ: چقماق سے آگ روشن ہونا۔ کہا جاتا ہے: یا تُرَی و یاهل تُرَی یعنی یا رجل هل تَرَی و تظن جس کا معنی ہے اے شخص کیا تو یہ خیال کرتا اور گمان کرتا ہے۔ رای بمعنی ظن کا مضارع صرف مجہول دیکھنے میں آیا ہے۔ رَاءَ الشیءَ بمعنی رَأَی الشی ہے۔ رَأَیْتُہ تَرْئِیَةً میرا اس کو اپنا آپ اصل کے خلاف دکھانا۔ رَاءَیْتُہ مُرَاءَاةً و رِئَاءً کو خلاف حقیقت دکھانا، سے مشاورت کرنا۔ اَرَی ــ اِرَاءَةً و اِرَاءَةً کو دکھانا، سے مشورہ کرنا۔ صفت: مُرٍ مونث مُرِیَة کہا جاتا ہے: اَرِنِی برایك مجھے مشورہ دو۔ اَرَی اللّٰہُ بفلان اللہ کا کسی کو قابل عبرت عذاب دینا اور اس کے دشمن کی خوشی کا سامان مہیا کرنا۔ اَرْأَی اِرْءَاءً صاحب رائے وعقل ہونا، کے چہرہ سے حماقت ٹپکنا، دکھاوا کرنا، آئینہ میں دیکھنا، بہت خواب دیکھنا، دیکھتے ہوئے پلکیں ہلانا۔ ــ تِ الحاملُ من غیر ذواتِ الحافر و السبع غیر کھر وسم والے جانوروں اور درندوں کی حاملہ کے تھنوں سے اس کا حمل والی معلوم ہونا۔ صفت: مُرْءٍ و مُرْئِیَة۔ ــ الرایةَ جھنڈا گاڑنا۔ تَرَأَّی و تَرَاءَی فی المرآة آئینہ میں دیکھنا۔ ــ لہٗ دیکھنے کے درپے ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَرَأَّی برای فلان وہ فلاں شخص کی رائے پر چلا۔ تَرَاءَی الناسُ ایک دوسرے کو دیکھنا۔ کہا جاتا ہے: تَرَاءَینا فی الامر ہم نے معاملہ میں غور وخوض کیا۔ تَرَاءَی لی ان الامرَ کَیتَ و کیتَ مجھ پر ظاہر ہوا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے۔ تَرَاءَینا الهلالَ ہم نے ہلال کو دیکھنا ظاہر کیا۔ اِرْتَأَی الامرَ معاملہ پر غور کرنا، پر شک کرنا، پر تدبر کرنا۔ اِسْتَرْأَی ہٗ: کو دیکھنے کی خواہش کرنا، کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا، کی رائے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِسْتَرْأَیْتُہٗ و اِسْتَرْیَتُہٗ میں نے اس کو دیکھنے کا مطالبہ کیا یا اس کی رائے طلب کی۔ ــ بالمرآة آئینہ سے دیکھنا۔ الرَأْی جمع آرَاء و اَرْآء رائے، اعتقاد۔ (آپ کہتے ہیں: رَأْیی کذا میری رائے یا اعتقاد یہ ہے)، صحت تدبیر۔ ــ الدَبَرِیّ حاجت کے بعد سوجھنے والی رائے۔ ــ الفطیر بدیہی رائے جو بغیر سوچ اور غور کیے دی جائے۔ الرِئْی و الرُئِیّ و الرُؤَاء و الرِیّ: منظر، منظر کا حسن۔ الرَئِیّ نظر آنے اور محبت کیا جانے والا جن۔ کہا جاتا ہے: بہ رَئِیٌّ من الجنّ: اس پر جن کا سایہ ہے۔ رَئِیُّ القوم: وہ شخص جس کی رائے سے لوگ رجوع کریں۔ الرِئَاء (مص) دکھاوا۔ کہا جاتا ہے: فعل ذلك رِئَاءً اس نے یہ جو کیا دکھاوے کے طور پر کیا۔ هُمْ رِئْءُ الفٍ: وہ ایک ہزار کے قریب ہیں۔ قومٌ رِئَاءٌ: ایک دوسرے کو ملنے والے لوگ۔ دُوْرُنا رِئَاءٌ ہمارے گھر ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں۔ الرُؤْیا جمع رُؤًی خواب۔ ــ و الرَأْیا کہا جاتا ہے: جاء حین جَنَّ رُؤْیاً اور رَأْیاً وہ اس وقت آیا جب ایسی تاریکی چھا گئی تھی جس نے دیکھنے سے باز رکھا۔ الرُؤْیَة جمع رُؤًی آنکھ یا دل کی نظر۔ الرِیَّة آنکھ یا دل کی نظر۔ التَرْئِیَة: منظر یا حسن منظر۔ الرَءَّاء: بہت دیکھنے والا (آنکھ یا دل سے)۔ المَرْأَی و المَرْآة منظر۔ کہا جاتا ہے: هو منی مرأًی وَمَسْمَعٌ او بِمَرأًی و مَسْمَعٍ: وہ ایسی جگہ ہے جہاں میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں اور سن بھی سکتا ہوں۔ تُخبرُ عَن مَجْهُولِہِ مَرْآتُہٗ: اس کا ظاہر اس کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے۔ المِرْآة جمع مَرَاءٍ و مَرَایا: آئینہ۔ اس سے فعل بھی آتا ہے جو یَتَمَرْأَی ہے۔ اس کا معنی ہے: وہ پانی میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے (سیبویہ سے منقول ہے)۔

۲۔ رَأَی ۔ رَأْیاً الرجلَ کے پھیپھڑے پر مارنا۔ اَرْأَی اِرْءَاءً: پھیپھڑوں کی شکایت رکھنا۔ الرِئَة جمع رِئَات و رِؤُن پھیپھڑا۔ رِئَوِیّ پھیپھڑوں کا، پھیپھڑوں سے متعلق۔

۳۔ اَرْأَی. لائق۔ کہا جاتا ہے: هو اَرْأَی بکذا: وہ اس کے لائق ہے۔ المَرْآة: لائق۔ کہا جاتا ہے: هو مَرْآةٌ بکذا: وہ اس کے لائق ہے۔ المِرْآة (مو)۔ سارنگی کا ایک آلہ۔

○ رَأَی یَرَی رَأْیاً و رُؤْیَةً ہ: کو دیکھنا، سمجھ لینا، دریافت کر لینا، معلوم کرنا، حواس سے معلوم کرنا، کا ادراک کرنا، کو سمجھنا، بوجھنا، پر غور کرنا، دھیان کرنا، کا مشاہدہ کرنا۔ ــ ہ ہ کو کچھ خیال کرنا، کو کچھ سمجھنا۔ ــ ان: کی یہ رائے ہونا کہ، یقین کرنا کہ، سمجھنا کہ۔ ــ اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ ــ ان محسوس کرنا کہ، ــ ہ کو مناسب سمجھنا، موزوں سمجھنا۔ ــ ہ کو چننا۔ ــ ان کو کرنے کا فیصلہ کرنا۔ ــ غور کرنا، غور سے دیکھنا۔ اَرَأَیْتَ: مجھے بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رَأَى رَأَىَ العین: اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ رَأَی رُؤْیاً: خواب دیکھنا۔ رَأَی منہ العَجَبَ: پر متحیر ہونا۔ رَأَی للشیء فائدۃً: سے کچھ فائدہ کی توقع کرنا۔ رَأَی من واجبہ: اپنا فرض سمجھنا، خود پر واجب سمجھنا۔ رَأَی لہ أن: خیال کرنا کہ یہ کسی کے مفاد میں ہوگا کہ۔ رَأَی رَأْیَہُ: کسی کی رائے میں شریک ہونا۔ رُوِیَ أن: فیصلہ ہوا کہ۔ رُؤِیَ الشیء: ایسا کرنا مناسب محسوس کیا گیا، خیال کیا گیا کہ یہ کرنے کی صحیح چیز ہے۔ رَاءَ: دکھاوے کیطور پر کرنا، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا، دکھاوا کرنا۔ ـــ ہ: سے منافقت کرنا، ریاکاری کرنا، فریب کاری کرنا، کو دھوکا دینا۔ اَرَی ہ: کو کچھ دکھانا۔ یا تُرَی؟: تمہاری کیا رائے ہے؟، کیا تم کہوگے، مجھے تعجب ہے۔ مَتَی یُرَی: نہ جانے کب۔ تُرَی ھَلْ: مجھے تعجب ہے اگر، کیا تم کہوگے؟ اُتُرَاھا جاءَت: مجھے تعجب ہے اگر وہ آگئی ہے، کیا تم کہوگے کہ وہ آگئی ہے؟ تَرَأَی: خیال کرنا، یقین کرنا، سمجھنا۔ تَراءَی ل: کو نظر آنے لگنا، کو مناسب معلوم ہونا، کو لگنا، کو درست لگنا، کو مناسب معلوم ہونا، کو مناسب خیال کرنا۔ ـــ: ایک دوسرے کو دیکھنا، اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھنا، منافقت کرنا۔ ـــ ب: کسی چیز کو ملمع کرکے پیش کرنا، کو گھڑنا، کو جھوٹ موٹ ظاہر کرنا۔ اِرْتَأَی ہ: پر غور کرنا، کو سوچنا۔ ـــ أن: کی رائے ہونا کہ، فیصلہ کرنا کہ۔ اِرْتَأَی رأیا: ایک رائے رکھنا۔ اِرْتَأَی رأیَہُ: کی رای میں شریک ہونا۔ رَأْی جمع آراء: رائے، خیال، تصور، گمان، ذہنی صورت یا شکل، صلاح، نصیحت، مشورہ، تجویز، تصویر خیال، موضوعی، داخلی یا غیر حقیقت پسندانہ رائے، کسی فرد کی سمجھ پر مبنی فیصلہ۔ فی رأیی اور عِندَ رأیی: میری رائے میں: انا من ھذا الرأی: میری رائے یہ ہے۔ من رأیہ ان: اسکی رائے ہے کہ۔ اُخِذَ الرأیُ علی: پر رائے شماری کی گئی، پر (معاملہ) پر ووٹ لئے گئے۔ لم یکن عِندَ رأیِھم: وہ وہ نہ تھا جس کی ان کو توقع تھی۔ لم یکن لہ فیہ رأیٌ: اس معاملہ میں شامل ہونے کا اسے کوئی حق نہ تھا۔ الرأی العام: رائے عامہ۔ ذُو الرأی جمع ذَوُو الآراء: ہوشمند، زیرک، معاملہ فہم، سوجھ بوجھ والا، صاحب بصیرت، باخبر، واقف حال، ذہین، فہیم، حقیقت آشنا۔ تَبَادُلُ الآراء: تبادلہ خیالات۔ صُلْبُ الرأی: ضدی، ہٹ کا پکا، ہٹ دھرم، ہٹیلا، منہ زور، اپنے رائے سے نہ ہٹنے والا، خودرائے۔ قِسمُ الرأی: ماہرین کی کمیٹی، قانونی اور اقتصادی امور پر کونسل (وزارتوں سے ملحق): رَایَۃ جمع رایات: جھنڈا، پرچم، پھریرا۔ رُؤْیَۃ: دیکھنا، معائنہ، امتحان، جائزہ۔ رُؤْیا جمع رُؤًی: خواب، تصور۔ سِفرُ الرُؤْیَا: الہام بالخصوص وہ جو یوحنا کو جزیرہ پتموس میں ہوا۔ مَرْأًی: نظر، نظارہ، منظر، سایہ، واہی صورت، بھوت، آسیب۔ علی مَرْأًی مِن: کی آنکھوں کے سامنے۔ علی مَرْأًی وَمَسْمَعٍ مِن: کی آنکھوں اور کانوں کے سامنے، کے مکمل علم میں۔ مِرْآۃ جمع مَرَاءٍ و مَرَایَا: آئینہ، عکس، انعکاس، منعکس صورت، خیالی تصویر۔ مِرَایَۃ جمع مِرایات: آئینہ۔ رِئَاء و رِیَاء: دکھاوا، ریا، فریب، مکر، حیلہ سازی، زمانہ سازی، ریاکاری، مکر۔ ـــ ب: کی بناوٹ، نقل۔ رَاءٍ: دیکھنے والا، تماشائی، ناظر، مشاہدہ کرنے والا۔ رَائِیۃ جمع رَائِیات: کیمرہ کی دوربین۔ مَرْئِیّ: دیکھا ہوا، جو آنکھوں کے سامنے ہو، جو دیکھا جا سکے۔ المَرْئِیَات: آنکھوں کے سامنے کی چیزیں۔ مرئی دنیا۔ مُرَاءٍ جمع مُرَاؤُون: منافق، ریاکار۔ رای: مصری سامن مچھلی کی ایک قسم (Salmon)۔

رب: ۱۔ رَبَّ ـ رَبًّا القومَ: قوم پر برتری حاصل کرکے اس پر سیاست کرنا۔ ـــ الشیءَ: کا مالک ہونا۔ تَرَبَّبَ الارضَ: زمین کا دعویدار ہونا، تم کہتے ہو: رَأَیْتُہُ یَتَرَبَّبُ اَرْضَکُم: میں نے اسے دیکھا کہ تمہاری زمین پر اپنی ملکیت کا دعوی کرتا تھا۔ الرَبّ (مص) جمع اَرْبَاب و رُبُوب: سردار، مالک، اللہ تعالیٰ کا ایک نام۔ رَبِّی و رَبَّانِیّ و رُبُوبِی: رب کا، رب کے متعلق۔ الرَبَّۃ: رب کا مؤنث، عورت کی شکل کا بت جیسے لات کا بت۔ المَرَبَّۃ: مملکت۔ الرُبّان جمع رَبَابِنَۃ و رَبَابِین: ملاحوں کا سردار۔ الرِبَابَۃ: سرداری۔ مملکت۔ المَرْبُوب: مملوک، غلام۔ الرُبّانِیّ: ملاحوں کا سردار۔ الرَبَّانِیّ: ربی، لاٹ، پادری، عارف ربانی۔

۲۔ رَبَّ ـ رَبًّا الامرَ: کسی کام کو درست کرنا۔ ـــ و رَبَّبَ تَرْبِیبًا و تَرِبَّۃً و اِرْتَبَّ اِرْتِبَابًا الولد: لڑکے کو بالغ ہونے تک پالنا۔ تَرَبَّبَ الصبیَ: بچہ کو بالغ ہونے تک پالنا۔ الرَبّ (مص) جمع اَرْبَاب و رُبُوب: مصلح، اصلاح کرنے والا۔ الرَابّ: سوتیلا باپ۔ الرُبَّی: وہ بکری جس نے بچہ جنا ہو یا اس کا بچہ مر گیا ہو۔ حال ہی میں بچہ جننے والی بکری۔ الرَابَّۃ: سوتیلی ماں۔ الرَبِیب و الرَبُوب جمع اَرِبَّۃ: سوتیلا باپ، سوتیلا لڑکا۔ الرِبَاب و الرِبَابَۃ [illegible] المَرْبُوب: پالا ہوا۔ الربیبۃ جمع رَبَائِب: دایہ، بیوی کی لڑکی، سوتیلی ماں۔

۳۔ رَبَّ ـ رَبًّا النعمۃَ: نعمت زیادہ کرنا۔ الرُبَّی: نعمت، احسان۔ المُرَبَّب: جس پر انعام کیا گیا ہو۔

۴۔ رَبَّ ـ رَبًّا بالمکان: کسی جگہ پر اقامت کرنا، اقامت پذیر ہونا۔ اَرَبَّ بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا، کسی جگہ ہمیشہ رہنا۔ کہا جاتا ہے: اَرَبَّتِ السحابۃُ: بادل مسلسل برسا۔ المَرَبّ: رہنے کی جگہ۔ آپ کہتے ہیں: ھذا مَرَبُّ القوم: یہ قوم کے رہنے کی جگہ ہے۔

۵۔ رَبَّ ـ رَبًّا الشیءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تَرَبَّبَ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا، مجتمع ہونا۔ الرَبَب: بہت پانی۔ الرَبَّۃ: بڑا گھر۔ الرِبَّۃ جمع اَرِبَّۃ و رِبَاب: بڑا گروہ۔ المَرَبّ: لوگوں کو اکٹھا کرنے والا، اجتماع کی جگہ۔ آپ کہتے ہیں: ھذا مَرَبُّ القوم: یہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے۔ ـــ و المِرْبَاب: بہت سبزہ والی زمین، بہت پودوں والی زمین۔ الرُبَّی: مضبوط گرہ۔ الرِبَاب: جماعتیں جن سے ہر ایک جماعت دس کی تعداد رکھتی ہو۔ الرَبّاب: جماعت۔ الرُبَّان و الرَبَّان: جماعت۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَ الشیءَ بِرُبَّانِہِ: اس نے تمام چیز لے لی۔

۶۔ رَبَّ ـ رَبًّا الدھنَ: تیل کو عمدہ اور خوشبودار بنانا۔ ـــ رَبًّا و رُبًّا الزِقَّ: مشک پر کھجور کا شیرہ ملنا تاکہ اس کی بو بھی بہتر ہو جائے اور گھی وغیرہ رکھا رکھا خراب نہ ہو۔ رَبَّبَ الدھنَ: تیل کو خوشبودار اور عمدہ بنانا۔ اُرْتُبَّ العنبُ: انگور کا پانی پکا کر شیرہ بنایا جانا۔ الرُبّ جمع رِبَاب و رُبُوب (ط): پھلوں کے رس کو پکا کر گاڑھا کیا ہوا شیرہ۔ الرِبَّۃ جمع اَرِبَّۃ و رِبَاب (ن): ایک قسم کا درخت۔ المُرَبَّب: مربہ۔ المُرَبَّبَات: شیرہ میں تیار کی ہوئی چیزیں۔

۷۔ اَرَبَّ منہ: کے قریب ہونا۔ الرِبَاب: دوست اصحاب۔

۸۔ رُبَّ و رُبَّۃَ و رُبَّمَا و رُبَّتَمَا: حرف جر۔ سیاق کلام کے موافق اکثر اور کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے۔ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور زائد کے حکم میں ہوتا ہے لہٰذا اس کا تعلق کسی سے نہ ہوگا۔ جیسے: رُبَّ جھلٍ رَفَعَ جہل لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ وہ مبتدا ہے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: رُبَّ اخٍ لک لم تَلِدْہُ اُمُّک: بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ماں جائے نہیں ہوتے (سچے دوست کے لئے کہا جاتا ہے جو بعض اوقات حقیقی بھائی سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے)۔ جب

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اس پر ما کافہ داخل ہو اس کا دخول فعل اور معرفہ پر جائز
ہوتا ہے۔ جیسے رُبّما الخلیلُ مُقبِلٌ و رُبّما اقبل
الخلیل اور کبھی اس کا عمل اس صورت میں بھی رہتا
ہے۔ جیسے رُبّما ضربۃٍ بسیفٍ صقیلٍ۔
الرُبّ میٹھا پانی الرباب واحد ربابۃ سفید
بادل (مو): آلہ طرب الرُبّی حاجت، ضرورت۔
الربّان کہا جاتا ہے افعل ذلک بربّانہ یہ کرو
اس کے نیا پن اور جدت کے ساتھ۔
۹ الربوب جنگلی گائیوں کا گلہ۔
ربّ ربّا و ربابۃ ہ کا آقا ہونا، مالک ہونا، کا
قابض ہونا، کو قابو میں رکھنا، پر تسلط قائم رکھنا، پر قابو
رکھنا، اقتدار رکھنا، زیر حکم رکھنا۔ ربّا و ربّب ہ
(بچہ) کی تربیت کرنا، پالنا ربّب ہ کو دیوی
دیوتا بنانا، کو پوجنا، معبود ٹھہرانا، کا پرستار ہونا الربّ
جمع ارباب آقا، مالک، حاکم اعلیٰ، فرمانروا، خدا
تعالیٰ ربّ (کو) رکھنے والا، (سے) مزین، (سے)
متعلق الرب خداتعالیٰ ربّ بحری ملاح،
ماہر جہاز ران ربّ العائلۃ کنبہ کا بانی، گھر کا بڑا۔
ارباب السلطان حکام ارباب المال سرمایہ
دار لوگ صعود الرب رفع مسیح ارباب
المعاشات پنشنر لوگ ارباب السوابق پہلے
مجرم قرار دیئے گئے لوگ، سزایافتہ مجرم ارباب الفنون:
فنکار لوگ ربّۃ جمع ربّات گھر والی، جورو، بیگم۔
ربّۃ المنزل بیگم ربّۃ البیت: مکان کی مالکن۔
ربّۃ شعرہ شاعر کی خداداد ذہانت ربّات الحجال:
بیگمات ربّ جمع رباب و ربوب پھلوں کا گاڑھا
رس، چوکر، گودا رُبّ بہت، کئی ربّ رجلٍ
کئی آدمی ربّ مرّۃٍ کئی دفعہ ربّما کبھی
کبھی، کبھی کبھار، شاید، اتفاقاً، اتفاق سے، ممکن ہے کہ،
کسی طرح، ہوسکتا ہے کہ۔ ربّۃ و ربّۃ: سر
اور چہرے پر اثر کرنے والا ایک جلدی مرض رباب
و ربابۃ تاروں کا ایک پرانا ساز، رباب، ستار۔
ربیب جمع اربّاء: سوتیلا بیٹا، سوتیلا باپ، منہ بولا
یا رضاعی باپ، لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا، رضاعی
بیٹا، نیم وفاقی، حلیف، اتحادی ربیبۃ جمع
ربائب: منہ بولی بیٹی، رضاعی یا لے پالک بیٹی، سوتیلی
بیٹی منہ بولی ماں، رضاعی ماں، مددگار (عورت) ربوبیۃ:
خدائی، الوہیت، دیوتائی، ربوبیت، احدیت ربّان
جمع ربّانیۃ و ربابنۃ بحری جہاز کا کپتان، جہاز کا
ناخدا ربّان ثانٍ کمانڈر ربّانی: خدائی،
ایزدی، ربانی، خداداد، آسمانی، اللہ تعالیٰ سے متعلق۔
الربّانیات: متبرک چیزیں الصلاۃ الربّانیۃ:
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے اپنے
متبعین کو سکھائی تھی جو اے ہمارے باپ سے شروع
ہوتی ہے مُربّۃ یا مُربّی: مربہ، جام، شکر میں پکایا
ہوا پھل رابّ: سوتیلا باپ رابّۃ: سوتیلی ماں۔
ربا اربأ - ربأ: چڑھنا، بلند ہونا۔ علی جبلٍ:
پہاڑ سے جھانکنا۔ الشیء: کو اونچا کرنا۔
القوم و للقوم: قوم کا نگہبان و دیدبان ہونا۔
فی الامر کسی معاملہ پر غور کرنا، سوچنا رابأ
مُرابأۃً ہ: کی نگرانی کرنا، سے پرحذر و خوف رہنا،
بچنا ارتبأ المربأۃ: دیدبانی کی جگہ پر چڑھنا۔
علی الجبل: پہاڑ پر سے جھانکنا۔ بھم: کا
دیدبان ہونا۔ کہا جاتا ہے ارتبأ الشمس متی تغرب
دیکھتے رہو کہ آفتاب کب غروب ہوتا ہے المربیء و
الربیئۃ جمع ربایا: فوج کا دیدبان سکاؤٹ۔
کہا جاتا ہے بثوا ربایاھم انہوں نے اپنے
دیدبان پھیلا دیئے المربأ و المربأ و المربأۃ و
المرتبأ: دیکھ بھال کرنے کی جگہ، پہرے کا مینار،
مجان المربأۃ: سیڑھی۔
۲ ربأ - ربأ المال: مال کی حفاظت کرنا، اصلاح کرنا۔
کہا جاتا ہے ارْبأ بہ اس کی حفاظت کرو لننی
اربأ بک عن ذلک: میں تمہارے لئے اس کو پسند نہیں
کرتا ما ربأت ربأہ: میں نے اس کو نہ جانا اور نہ
اس کی پروا کی۔
۳ ربأ - ربأ المال: مال لے جانا ربّأ تربئۃً ہ:
کو لے جانا۔
ربأ - ربأب: کی بہت عزت کرنا، توقیر کرنا، کا احترام
کرنا ربأ بہ عن: کسی کو کسی چیز یا کچھ کرنے سے
بالاتر سمجھنا، کے متعلق اس قدر اونچی رائے رکھنا کہ اس
پر کچھ کرنے کا شبہ کیا جائے یا توقع کی جائے کہ وہ ایسا
کرے گا ربأ بنفسہ عن: اپنے آپ کو کسی چیز
سے بالاتر سمجھنا، سے بہتر خیال کرنا، سے الگ تھلگ
رہنا ربیئۃ جمع ربایا: پہرے دار، سنتری، محافظ۔
ربت: اربت - ربتاً الصبیَّ: بچہ کی پرورش کرنا،
بچہ کو پالنا ربّت تربیتاً الصبیَّ: بچہ کی پرورش
کرنا، بچہ کو پالنا، بچہ کو تھپکنا تاکہ سو جائے۔
۲ ربت - ربتاً الشیءُ: بند ہونا۔
ربت - ربتاً ہ: کو تھپکنا، تھپکی دینا، پر پیار سے ہاتھ
پھیرنا، چومنا، کو سہلانا ربّت ہ: بمعنی ربت ہ۔
ربّت علی خدہ: کے رخسار کو تھپکنا۔ ربّت علی
کتفہ: کا کندھا تھپکنا ربّت نفسہ: خود ہی مطمئن
ہونا، خود ہی خوش ہونا، آدم بیزار ہونا۔
ربث: اربث - ربثاً و ربّث ہ عن کذا: کو ست
کرنا، روکنا تربّث: دیر لگانا، پیچھے رہنا المربث
روکا ہوا المربّثی: مانع، روک المربثۃ جمع
ربائث: مانع، دھوکا۔
۲ ارتبث و اربث القومُ: متفرق ہونا، منتشر ہونا، تتر
بتر ہونا۔ امرھم: کا معاملہ کمزور ہونا، بکھر جانا۔
ربج: ربُج - و ربِج - رباجۃً: کودن ہونا، بیوقوف
ہونا، کند ذہن ہونا تربّج: کند ذہن ہونا، متحیر ہونا۔
الاربجان (ن): ایک قسم کی نبات، پودا۔
ربح: اربح - ربحًا و ربَحًا و رباحًا فی تجارتہ
تجارت میں نفع حاصل کرنا ربّح ہ: کو فائدہ مند
کرنا رابح مُرابحۃً ہ علی سلعتہ: کو اس
کے سامان تجارت پر نفع دینا اربح الناقۃَ: اونٹنی کو
صبح اور دوپہر کو دوہنا۔ ہ علی سلعتہ: کو اس
کے سامان تجارت پر نفع دینا تربّح: نفع طلب کرنا۔
استربح: نفع طلب کرنا۔ الشیءَ: کا نفع طلب
کرنا الربح جمع ارباح و الرباح: نفع، فائدہ۔
الربح: نفع، فائدہ، فروخت کے لئے لائے جانے
والے اونٹ مالٌ رابح: نفع دینے والا مال متجرٌ
ربیحٌ: نفع بخش تجارت۔
۲ المربح (ح): اونٹ کے چھوٹے بچے المرباح:
شراب، وہ شہر جس سے کافور لایا جاتا ہے اور الرباحی
کہلاتا ہے المرباح و الرُبّاح جمع ربابیح
(ح): اونٹ کا بچہ، بکری کا بچہ (ح): بندر۔
ربح - ربحًا و ربَحًا من ہ: کسی چیز سے کوئی چیز
پانا، حاصل کرنا۔ من: سے نفع کمانا، (کھیل وغیرہ
میں) جیتنا ما ربحت تجارتھم: ان کی تجارت
غیر منفعت بخش تھی ربّح و اربح ہ: کو حاصل
کرانا، کو نفع دینا ربح جمع ارباح: نفع، فائدہ،
سود ارباح: پیداوار، منافع، محاصل، بکری، آمدنی،
کمپنی کا وقتاً فوقتاً ادا ہونے والے منافع ربح
بسیط: سادہ سود ربح مُرکّبٌ: سود مرکب، سود
در سود ربّاح جمع ربابیح: بندر مربح:
زیادہ منافع بخش، زیادہ نفع بخش، زیادہ منفعت بخش۔
مُرابحۃ: دوسرے شخص کو کسی چیز کی فروخت نفع کی
تفصیل کے ساتھ یا پیشگی ادائی کے ساتھ رابح:
نفع اندوز، فائدہ اٹھانے والا، جیتنے والا، نفع پانے والا،
منفعت بخش، سود مند، نفع بخش (تجارت، کاروبار)۔
مُربح: نفع بخش، منفعت بخش، نفع کا، سود مند۔
ربخ: ربخ - ربخًا البعیرُ: اونٹ کا ریت میں چلنا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دشوار ہونا۔ اَرْبَخَ الرملُ: ریت کا تہ بند ہونا۔ — الرجلُ: مصیبت میں پڑنا۔ تَرَبَّخَ الرجلُ: سست وڈھیلا ہونا۔ الرَبِیخ: بڑا پالان۔

ربد: ۱۔ رَبَدَ ۓ رُبُودًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ — ہٗ: کو منع کرنا، روکنا۔ — الابلَ: اونٹوں کو باڑہ میں باندھنا۔ المِربَد: اونٹوں وغیرہ کا باڑہ، گھروں کے پیچھے کا میدان یا گھیر۔ — للتمر: کھجوروں کے خشک کرنے کی جگہ۔

۲۔ رَبِدَتِ الشاۃُ: بکری کے تھن میں سفید وسیاہ داغوں کا ہونا۔ تَرَبَّدَ الضرعُ: تھن میں سیاہ سفید داغوں کا ہونا۔ — تِ السماءُ: آسمان کا ابر آلود ہونا۔ — الرجلُ: ترش رو ہونا، تیوری چڑھانا۔ — اللونُ: رنگ کا متغیر ہونا۔ اِرْبَدَّ اِرْبِدَادًا و اِرْبَادَّ اِرْبِيدَادًا: خاکستری رنگ والا ہونا۔ الربد (ن) ایک قسم کا پودا۔ الرُبْدۃ: خاکستری رنگ۔ الأَرْبَد مونث رَبْداء: خاکستری رنگ والا۔ عامٌ اَرْبَد: قحط کا سال۔ الرَبْداء: سخت وسنگین۔ کہا جاتا ہے: داهِيَةٌ رَبْداء: سخت یا سنگین مصیبت۔ المُتَرَبِّد: شیر۔

○ تَرَبَّدَ: آسمان کا ابر آلود ہونا، بادلوں سے بھر جانا، آسمان پر بادل چھا جانا؛ خاکستری رنگ کا ہونا، قہر آلود ہونا، (چہرے کا غصہ سے)۔ اِسْتَرْبَدَ: خاکستری رنگ کا ہونا، راکھ جیسا ہونا، قہر آلودہ ہونا (چہرے کا)، ترش رو ہونا۔ مُتَرَبِّد: تاریک اداس، ملول افسردہ۔ (چہرہ) ابر آلود۔

ربذ: ۱۔ رَبِذَ – رَبَذًا: چلنے میں تیز قدم اور کام میں تیز دست ہونا۔ صفت: رَبِذ۔ الرَبِذ مونث رَبِذَۃ: چلنے میں تیز ٹانگوں والا۔ کہا جاتا ہے: هو رَبِذُ العنان: وہ تنہا اور شکست خوردہ ہے۔

۲۔ اَرْبَذَ الثوبَ او الحبلَ: کپڑا یا رسی کاٹنا۔ الرِبْذَۃ و الرَبَذَۃ جمع رِبَذ و رِبَاذ و رَبَذ: کوڑے کا پھندنا۔

۳۔ الرِبْذَۃ: گندگی، بے خبر آدمی۔ — و الرَبَذَۃ جمع رِبَذ و رِبَاذ و رَبَذ: چیتھڑا جس سے سنار زیورات صاف کرتا ہے، روئی کا گالا جو اونٹ کے کان یا گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ اون جس سے اونٹ کی مالش کی جاتی ہے، بوتل کا ڈھکن۔ لِثَۃٌ رَبِذَۃ: تھوڑے گوشت والے مسوڑھے۔

ربز: رَبُزَ ۓ رَبَازَۃً: چالاک ودانا ہونا۔ رَبَّزَ القربۃَ: مشک بھرنا۔ اِرْتَبَزَ الشیءُ: چیز کا تمام وکامل ہونا۔

ربس: ۱۔ رَبَسَ ۓ رَبْسًا ہٗ بِیَدَیْہِ: کو دو ہتڑ مارنا۔ الرَبِیس: دو ہتڑ سے مارا ہوا۔

۲۔ رَبَسَ ۓ رَبْسًا و رَبَّسَ القربۃَ: مشک کو بھرنا۔ اِرْتَبَسَ العنقودُ: گچھے کا ایک دوسرے میں گھس جانا، ٹھوس ہونا، پیوستہ ہونا۔ الرَبْس (مص): بہت، کثیر۔ کہا جاتا ہے: جاء بمالٍ رَبْسٍ: وہ بہت مال لایا۔ الرَبِیس: ٹھوس۔

۳۔ اَرْبَسَ اِرْبَاسًا ہٗ: کو غضبناک کرنا۔ اِرْبَسَّ اِرْبِسَاسًا امرُهُم: کے معاملہ کے کمزور ہونے کے باعث سب کا متفرق ہونا۔ الرجلُ: ملک میں جانا۔ — فی امرِہٖ: اپنے کام میں تصرف کرنا۔

۴۔ الرُبَس: ناپسندیدہ اور بری بات۔ الرَبِیس: مصیبت، مصیبت زدہ، بہادر۔ ام الربیس: سانپ، مصیبت سے کنایہ۔ الرُبْساء جمع رُبُس: سخت مصیبت۔ کہا جاتا ہے: جاء بامورٍ رُبْسٍ: وہ مصائب لے کر آیا۔ الرِبْبَاس (ن): چقندر کے مشابہ ایک سبزی جس کا مزہ ترشی مائل میٹھا ہوتا ہے۔

ربش: اَرْبَشَ الشجرُ: درخت کا پتے لانا، پھوٹنا، بعض کے نزدیک درخت کا پھل لانا۔ الرُبْشَۃ: رنگ کا اختلاف۔ الأَرْبَش مونث رَبْشَاء: مختلف رنگوں کا۔ ارضٌ رَبْشَاءُ: مختلف رنگوں کی گھاس والی زمین۔

ربص: رَبَصَ ۓ رَبْصًا بہ: کے لئے بھلائی یا برائی کا انتظار کرنا یا کسی کو برائی پہنچانے کے لئے موقع کی تاک میں رہنا۔ تَرَبَّصَ: انتظار کرنا۔ — عن الامر: کسی امر سے رک جانا۔ — فی المکان: کسی جگہ رہنا۔ — بفلان: کسی کے لئے برائی یا بھلائی کا انتظار کرنا، کو نقصان پہنچانے کے لئے موقع کی تاک میں رہنا۔ — بسلعتہ الغلاءَ: مال کی گرانی تک اُسے روک رکھنا۔ الرُبْصَۃ: انتظار، موقع کی تاک میں رہنا، رنگ کا اختلاف۔

○ رَبَصَ ۓ رَبْصًا ب: کا انتظار کرنا، کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کا منتظر ہونا۔ تَرَبَّصَ ل: کی گھات میں ہونا یا بیٹھنا، کو راستے میں روکنا، کی راہزنی کرنا، کی گھات لگانا۔ — : گھات لگانا، پوزیشن لے لینا (فوج کا)۔ — ب/ ہ: کی توقع کرنا، کا انتظار کرنا۔ تَرَبَّصَ الفرصۃَ: موقع کا انتظار کرنا، موقع کی تاک میں رہنا۔ تَرَبَّصَ بِهِ الامرَ: کسی پر کوئی بپتا پڑنے یا حادثہ وغیرہ پیش آنے کا انتظار کرنا۔ تَرَبَّصَ بہ الدوائرَ: کسی کے مصیبت میں پھنسنے کا انتظار کرنا۔ تَرَبُّص: آزمائشی مدت۔ مُتَرَبِّص: امیدوار، (عروج وترقی کا) آرزومند یا متمنی۔

ربض: رَبَضَ – رَبْضًا و رُبُوضًا و رِبْضَۃً: الدابۃُ: اونٹوں کا گھٹنوں پر بیٹھنا۔ — الاسدُ علی [illegible] القِرنُ علی قرنہٖ [illegible] اور ساتھی کا اپنے ساتھی کو دبوچ کر بیٹھنا۔ — ۓ رَبْضًا و رُبُوضًا فلانًا او المکانَ: کسی کے پاس یا کسی جگہ پناہ لینا۔ رَبَّضَ ہٗ بالمکان: کو کسی جگہ روکے رکھنا۔ — الدوابَّ: جانوروں کو ان کے بیٹھنے کی جگہ روکے رکھنا۔ کہا جاتا ہے: رَبَّضَ السقاءُ: مشک میں سوراخ ڈھکنے والی کوئی چیز رکھنا۔ اَرْبَضَ الدوابَّ: اونٹوں کو احاطہ میں لانا۔ — الرجلُ: پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا جس سے وہ بیٹھ جائے۔ — تِ الشمسُ: سورج کا سخت گرم ہونا۔ تَرَبَّضَ: ضعف کی وجہ سے کسی جگہ ٹھہرے رہنا۔ الرُبْض: عمارت کی بنیاد، چیز کا زمین سے چھونے والا حصہ، چیز کا درمیان۔ — والرَبْضُ و الرُبْض: بیوی، ماں، بہن۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ رُبْضٌ عن الاسفار او عن الحاجات: وہ آدمی جو نہ تو سفر کے لئے اور نہ ہی حاجت روائی کے لئے باہر نکلے۔ الرِبْض من البقر: بیٹھی ہوئی گایوں کا گلہ۔ الرَبَض: بیوی، ماں، بہن۔ — جمع اَرْباض: بکریوں کا باڑہ، کجاوہ کی رسی، قوم کے رہنے کی جگہ، شہر کے گرد کی بستی، شہر پناہ، آنتیں، ہر ایسی چیز جس کے پاس آرام لیا جائے یا پناہ لی جائے جیسے اہل خانہ، رشتے دار، مال، گھر وغیرہ۔ الرابِض (فا) و الرَبَّاض: شیر۔ الرابضۃ: رابض کا مونث، بلند امور سرانجام دینے سے عاجز وقاصر، چپٹی ناک والے کو کہا جاتا ہے: ارنبتہ رابضۃ علی وجهه: اس کی ناک اس کے چہرہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ الرُبْضَۃ و الرِبْضَۃ: بیٹھ رہنے والا آدمی۔ الربضۃ: لاشوں کا ڈھیر، لاش، بکریوں کا گلہ، آدمیوں کا گروہ، بیٹھنے کی ہیئت۔ الرَبُوض جمع رُبُض من القُری: بہت آبادی والا گاؤں۔ — من الشجرِ: بڑا درخت۔ — من الدروعِ: فراخ زرہ۔ قِرْبَۃٌ رَبُوضٌ: بڑی مشک جس کا اٹھانا دشوار ہو۔ الرَبِیض: احاطہ میں اکٹھا کیا ہوا بکریوں کا ریوڑ مع چرواہوں کے، پیٹ میں آنتوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ المَرْبِض جمع مَرَابِض: جانوروں کے بیٹھنے کا احاطہ۔ — والمَرْبَض: پیٹ میں آنتوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

○ رَبَضَ – رَبْضًا و رُبُوضًا: جانوروں کا زمین پر سینہ کے بل لیٹنا، بیٹھنا، آرام کرنا۔ — ل: کسی کی گھات میں ہونا، یا کسی کی گھات میں بیٹھنا۔ رَبَض جمع اَرْبَاض: شہر کے دور افتادہ علاقے، نواحی بستی، جانوروں کے آرام کرنے کے لئے لیٹنے کی جگہ۔ مَرْبِض جمع مَرَابِض: جانوروں کے بیٹھنے اور آرام کرنے کی جگہ، بھیڑوں کا باڑا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ربط ۱۔ رَبَطَ ـ رَبْطًا ہُ: کومضبوط باندھنا۔ رَابَطَ رِبَاطًا و مُرَابَطَةً الجیشَ: دشمن کی سرحد کے پاس لشکر کا ہمیشہ پڑاؤ رکھنا۔ تَرَابَطَ الماءُ فی المکان: پانی کا کسی جگہ جمع ہوکر ٹھہرنا۔ اِرْتَبَطَ فی الحبل: رسی میں بندھ کر لٹکنا۔ ۔ فرسًا: سرحد کی حفاظت کے لئے گھوڑے کو تیار کرنا۔ الرباط جمع رُبُط: جس سے کوئی چیز باندھی جائے، باندھنے کی چیز، گھوڑے (کہا جاتا ہے: فلانٌ لہُ رباطٌ من الخیل: فلاں شخص کے پاس گھوڑے ہیں)، قلعہ یا لشکر کا پڑاؤ، دل۔ کہا جاتا ہے: شرص رباطہُ: وہ مرگیا، یا بیماری سے صحت یاب ہوگیا۔ الرُّبُط واحد ربیط: بندھے ہوئے اور چارہ دیئے ہوئے گھوڑے۔ الربیط: بندھا ہوا۔ الربیطة: بندھے ہوئے جانور۔ کہا جاتا ہے: دابّةٌ رَبِیطَةٌ: بندھا ہوا جانور (خلاف قیاس) اور دابّةٌ ربیط۔ المربَط و المَربِط جمع مرابِط: جانوروں کو باندھنے کی جگہ۔ المِربَط و لمِربَطة جمع مرابط: جانور وغیرہ باندھنے کی چیز۔ الرَّبَّاط: تانت کو باندھنے والا۔ الرابطة: رابط کا مؤنث: ملاپ تعلق۔ المُرابطة جمع مرابطات: ایک جگہ تعینات کیا ہوا فوجی دستہ۔ الربَاطات واحد رِباط: (فقراء کے لئے وقف کئے ہوئے) محتاج خانے۔

۲۔ رَبَطَ ـ رَبْطًا ہُ اللّٰہُ علی قلبہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کے دل کو قوت بخشنا اور صبر عطا کرنا۔ ۔ جاشَہُ: دل کا مضبوط ہونا۔ رابط رِباطًا مُرابَطَةً الامرَ: کسی کام وغیرہ کو کرتے رہنا، پڑ ڈٹا رہنا، جما رہنا، قائم رہنا۔ المرابط (فا) راہب یا زاہد، عابد، حکیم یا دانا جس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرلی ہو۔ رَابِطُ الجاش: بہادر، نڈر۔ الربیط: راہب یا زاہد، دانا۔ رَبِیطُ الجاش: بہادر۔

ج رَبَطَ ـ رَبْطًا ہ: کو باندھنا، لنگر انداز کرنا۔ ۔ ہ الی: کو سے باندھنا، جوڑنا، لگانا، لٹکانا، نتھی کرنا، منسلک کرنا، کو کے ساتھ لگانا، کو سے ملانا۔ ۔ ہ: کو مقرر کرنا، معین کرنا، متعین کرنا، کی قیمت لگانا، آنکنا، کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا، کو تشخیص کرنا، لگانا یا مقرر کرنا۔ ۔ ہ الی: کو سے جوڑنا، کو میں جمع کرنا، شامل کرنا، کا میں اضافہ کرنا، کو کے ساتھ نتھی کرنا، ٹانکنا، ملحق کرنا، کو سے چپکانا، چپکانا، لگانا، کو میں ڈالنا، داخل کرنا۔ ۔ ہ: کو ایک کرنا، متحد کرنا، اکٹھے کرنا۔ ۔ بین و بین: کو کے ساتھ متحد کرنا، اکٹھے کرنا۔ ۔ ہ: کو باندھنا، پر لہو روک (پٹی) لگانا، (زخم) کی مرہم پٹی کرنا، زخم کو پٹی سے باندھنا۔ ۔ ہ/علی: کو روکنا، تھامنا، لگام دینا۔ ۔ ہ (ٹرین) کو بریک لگانا۔ ۔ ہ (پادری) کو معطل کرنا۔ رَبَطَ لِسانہ: کو خاموش کرنا، کا منہ بند کرنا۔ رَبَطَ علی قلبہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو جسمانی، اخلاقی یا دماغی حیثیت سے قوی بنانا، صبر عطا کرنا۔ رَبَطَ جاشَہُ: اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، خاموش رہنا، بے خوف ہونا، ہراساں نہ ہونا۔ رَبَطَ الطریقةَ: شاہراہ پر ڈاکے ڈالنا۔ رَابَطَ (فوج کا) صف بستہ ہونا، کسی مقام پر تعینات ہونا، پوزیشن لینا، (جہاز کا) لنگر انداز ہونا۔ رابط فی قضیّتہ: کے نصب العین کا دفاع کرنا، کے لئے لڑنا۔ اِرْتَبَطَ: پابند ہونا، مشغول ہونا۔ ۔ ب: سے پابند، مربوط، منسلک یا متعلق ہونا، پر انحصار کرنا۔ ۔ متحد ہونا، مشترکہ مقصد کے حصول کے لئے باہم مل کر کام کرنا۔ رَبْط: باندھنا، جوڑنا، ملانا، نتھی کرنا، مربوط کرنا (کسی رقم، تعداد) کا تعین، تقرر، تشخیص، قیمت کا اندازہ (کرنا)۔ ربط مالی: مالی تعین، اختصاص۔ اھل الحل و الربط: صاحب رسوخ یا اختیار لوگ، برسر اقتدار لوگ۔ مکانُ الربط: لوہے کا جوڑ، لوہا گرم کر کے لگایا ہوا ٹانکا یا جوڑ۔ رَبَض: مضافات، نواحی علاقہ، سواد شہر، نواح شہر۔ رُبْطَة جمع ربطات و رِباط: ربن، بینڈ، زخم پر باندھنے کی پٹی، بنڈل، پارسل، پیکیج۔ ربطة الرقبة: نیک ٹائی۔ ربطة السِّباق: گیٹس، موزہ کا بندیا فیتہ، لچکدار پٹی۔ رُبْطَةُ النقود: بٹوہ۔ رِباط جمع رباطات و رُبُط و اَرْبِطَة: ربن، بینڈ، پٹی، بند، بندھن، رشتہ، ریشے اور عضلات جو ہڈیوں کو ملاتے ہیں، ہڈیوں کو جوڑنے والی رگیں، زخم پر باندھنے کی پٹی، زنجیر، بیڑی، بندش، بند، بندھن، سرائے کارواں سرائے، محتاج خانہ (صوفیوں اور فقیروں کے لئے)۔ رِباطُ الأجْرِبَة: گیٹس۔ رباط الجَزْمَة: بوٹ کا تسمہ۔ رباط الرَّقَبَة: نیک ٹائی۔ رباط و رِباط الفتح رباط (مراکش کا دارالحکومت)۔ رِبَاطَةُ الجاش: دلجمعی، اطمینان، سکون، ضبط نفس، قرار، خاموشی، جواں مردی، بے باکی، شجاعت۔ مَرِبط و مَرْبَط جمع مَرَابِط: وہ جگہ جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ مِرْبَط جمع مَرَابِط: رسی، لنگر اندازی کی تار، جہاز کا تار، جہاز کا موٹا رسہ، سرا (برقی)۔ اِرْتِبَاط: تعلق، رابطہ، پیوند، رشتہ، رابطہ، واسطہ، ربط، اتصال، ربط۔ (۔ ب سے بندھن) فرض معروفیت، پابندی، ذمہ داری، قید۔ ۔ ب: سے تعلق یا علاقہ، کے ساتھ رشتہ۔ ۔ اتحاد، متحدہ جماعت، ممالک منسلکہ۔ بدونِ ارتباط: کسی ذمہ داری کے بغیر۔ ضابطُ اِرتباط: افسر رابطہ۔ رَابِطُ الجاش: خاموش، مطمئن جذبات پر قابو پائے ہوئے پرسکون، نڈر، بے خوف۔ رَابِطَة جمع رَوَابِط: بینڈ، اتحاد، بندھن رشتہ، تعلق، رابطہ، پیوند، واسطہ، ممالک منسلکہ، نیم وفاق، اتحاد، متحدہ جماعت۔ رَوَابِطُ الصداقة: دوستی کے رشتے۔ الرابطة الاسلامیة: مسلم لیگ۔ مَرْبوط: بندھا ہوا، جڑا ہوا۔ ۔ الی: سے بندھا ہوا، جکڑا ہوا، رسیوں سے (زمین) کے ساتھ، محفوظ کی ہوئی (کشتی وغیرہ)۔ ۔ مقرر کیا ہوا، مقررہ تنخواہ (بجٹ کا) تخمینہ۔ مُرَابِط (کسی جگہ) لگایا ہوا، تعینات کیا ہوا، حفاظت پر مامور فوج۔ الجیش المُرابِط: علاقائی فوج۔ مرتبط ب: سے مربوط، جڑا ہوا، ملایا ہوا، منسلک کیا ہوا۔ ۔ ب: کا پابند کیا ہوا، کا وعدہ کئے ہوئے، سے مشروط، پر منحصر۔

ربع ۱۔ رَبَعَ ـ رَبْعًا: توقف کرنا، انتظار کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِرْبَعْ علیك او علی نفسك او علی ظلعك: ٹھہرو، توقف کرو۔ ۔ عنہُ: سے رکنا۔ ۔ بعیشہِ: زندگی سے مطمئن ہونا۔ ۔ علیہ: پر شفقت و مہربانی کرنا۔

۲۔ رَبَعَ ـ رَبْعًا القومَ: کا چالیسواں یا چوتھا ہونا، کے مال کا چوتھا حصہ لینا۔ ۔ الحبلَ: چار لڑیوں کی رسی بٹنا۔ ۔ رُبِعَتْ علیہ الحُمّٰی: کو ہر چوتھے دن بخار چڑھنا۔ رُبِعَ الرَّجُلُ: کو ہر چوتھے دن بخار چڑھنا۔ رَبَّعَ البیتَ او الحوضَ: گھر یا حوض کو چوکور کرنا۔ اَرْبَعَ: چوتھے سال میں داخل ہونا۔ اَرْبَعَ القومُ: چار ہونا۔ ۔ الرجلُ: کو چوتھا بخار آنا۔ تَرَبَّعَ فی جلوسہ: چار زانو ہوکر بیٹھنا۔ الرُّبْع و الرُّبُع جمع اَرباع و رُبُوع: چوتھائی 1/4، الرَّبْع و الرَّبَع: درمیانے قد کا آدمی۔ کہا جاتا ہے: رجل رَبْع و رَبَع: درمیانے قد کا آدمی۔ الرِّبْع: اونٹوں کو چوتھے دن پانی پلانا۔ حُمّیٰ الرِّبع: چوتھیا بخار۔ الرَّبْعَة جمع رَبْعات و رَبَعات (مذکر و مؤنث کے لئے): میانہ قد کا، عطر فروش کا ڈبہ۔ کہا جاتا ہے: فتح العطّارُ رَبْعَتَہُ: عطر فروش نے اپنا ڈبہ کھولا۔ الرَّابِع (فا): چوتھا۔ اِبِل رَوَابِع: چوتھے دن پانی پینے والے اونٹ۔ رُبَاعَ: چار چار۔ کہا جاتا ہے: اتوا رُبَاعَ: وہ چار چار آئے۔ الرَّبَاعِی جمع رُبْع و رُبُع و رِبْعان و رِبَاع و رُبَع و اَرْبَاع مؤنث رَبَاعِیَة

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جمع رَبَاعِيَات رباعی دانت گرا ہوا۔ آپ کہتے ہیں: رکبت بِرْذَوْنًا رَبَاعِيًا میں ایک ٹٹو پر سوار ہوا جس کے رباعی دانت گرے ہوئے تھے۔ عندی بِرْذَون رَبَاعٍ میرے پاس رباعی دانت گرا ہوا ٹٹو ہے۔ الرَّبَاعِيَة جمع رباعِيَات سامنے کے چار دانتوں اور کچلیوں کے درمیان والا دانت۔ الرُّبَاعي: چار سے مرکب۔ ۔او الشکل الرُّبَاعِيّ (ہ) چار ضلعی یا چار زاویہ شکل۔ الرَّوْبَعَةُ چارزانو بیٹھنے والے کی بیٹھک، کوتاہ قد کا، پستہ قد کا۔ اَرْبَعَة مونث اَرْبَع (ع ح) چار۔ الرياحُ الأربَع: چار سمت چلنے والی ہوائیں۔ الصبا (پوروی ہوا)۔ الدَّبُور (پچھمی ہوا) الجنوب (جنوبی ہوا) الشمال (شمالی ہوا)۔ ذوات الأرْبَع چار ٹانگوں پر چلنے والے جانور چوپائے۔ اُم اَرْبَع و اَرْبعين (ح) ایک قسم کا کیڑا (کن سلائی)۔ اَرْبَعُون چالیس۔ الأرْبَعاء (باء کی تثلیث کے ساتھ۔ تثنیہ اَرْبَعَاوان جمع اَرْبَعَاءَات و اَرْبَعَاوات: بدھ کا دن۔ الأرْبُعاء (ب) گھر کا ستون۔ قَعَدَ الأرْبُعَاءَ و الأرْبُعَاوَى: وہ چارزانو ہو کر بیٹھا۔ المُرْبَع: چوتھیا بخار والا۔ المُرَبَّع (ہ) مربع: وہ شکل جس کے چار رکن یا ضلعے ہوں۔ (ع ح) کسی ہندسے کو اسی سے ضرب دینے کا حاصل چنانچہ 9 تین کا مربع ہے۔ الرَّبِيع جمع رُبُع: چوتھائی۔ التَّرْبِيع (ع ح): عدد کا مربع۔ المِرْبَاع: غنیمت کا چوتھا حصہ جو زمانہ جاہلیت میں سردار لیا کرتا تھا۔ ـــ والمُرْتَبِع و المَرْبُوع: درمیانے قد کا۔

۳۔ رَبَعَ ـ رَبْعًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا، مطمئن ہونا۔ الرَّبْع جمع رِبَاع و رُبُوع و اَرْبُع و اَرْبَاع: گھر، گھر کا ارد گرد، محلہ، اترنے کی جگہ، لوگوں کا گروہ۔ الرُّبُوع: محلے۔ الرَّبَاع خوش حالی۔ کہا جاتا ہے: ھم علی رَبَاعِھِم: وہ اپنی گذشتہ خوشحالی میں ہیں۔ الرَّبَاعَة و الرِّبَاعَة اچھی حالت (کہا جاتا ہے: لیس فیھم من یضبط رَبَاعَتَهُ الافلانٌ: فلاں شخص کے سوا ان میں کوئی بھی اپنی اچھی حالت میں نہیں) سرداری، (کہا جاتا ہے: لا یقیم رباعة القوم الافلانٌ: فلاں شخص کے سوا کوئی بھی قوم کی سرداری قائم رکھنے والا نہیں۔ ھو رباعة قومه: وہ اپنی قوم کا سردار ہے) مملوک چیز جس سے انسان کی حالت اچھی ہو۔

۴۔ رَبَعَ ـ رَبْعًا الرجلُ: خوش حالی کا سال پانا۔ ـــ الابلُ اونٹوں کا چوتھے دن پانی پینا۔ ـــ رُبُوعًا الرَّبِيعُ موسم بہار کا آنا۔ رُبِعَ القومُ: موسم بہار کی بارش پانا۔ اسی طرح زمین کا موسم بہار کی بارش پانا ایسی زمین مَرْبُوعَة کہلاتی ہے۔ اَرْبَعَ القومُ فصل ربیع میں داخل ہونا، چراگاہ یا پانی والی سرسبز جگہ پر پہنچنا۔ ـ الابل: اونٹوں کو پانی پر جانے کے لئے آزاد چھوڑ دینا۔ ـ الرجل: کے ہاں بڑھاپے میں بچہ پیدا ہونا۔ تَرَبَّعَ و اِرْتَبَعَ الجمل موسم بہار کے سبزہ کو چر کر اونٹ کا فربہ ہونا۔ ـ بالمکان کسی جگہ موسم بہار گزارنا۔ المَرْبَع جمع رِبَاع و رُبُوع و اَرْبَع و اَرْبَاع: موسم بہار گزارنے کی جگہ۔ الرُّبَع جمع رِبَاع و اَرْبَاع مونث رُبَعَة جمع رُبَعَات و رِبَاع: موسم بہار میں پیدا ہونے والا اونٹنی کا پہلا بچہ اگر موسم بہار کے آخر میں پیدا ہو تو اسے هُبَع کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: مالھم رُبَعٌ ولا هُبَعٌ ان کے پاس نہ تو موسم بہار میں پیدا ہونے والا اونٹنی کا بچہ ہے اور نہ اس موسم کے آخر میں پیدا ہونے والا اونٹنی کا بچہ۔ الرَّبِيع جمع اَرْبِعَة و رِبَاع و اَرْبِعاء: موسم بہار (۲۱ مارچ سے ۲۱ جون تک)۔ ربیع الاوّل و الآخر: قمری سال کا تیسرا اور چوتھا مہینہ۔ ربیع الاول صفر اور ربیع الاخر کے درمیان کا مہینہ ہے اس کے تیس دن ہوتے ہیں۔ ربیع الآخر ربیع الاول اور جمادی الاولی کے درمیان کا مہینہ ہے یہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ربیع رَابِع: سرسبز موسم بہار۔ ـــ جمع اَرْبِعاء و رُبْعان: زمین کے لئے پانی کا حصہ۔ مطرُ الربیع: موسم بہار کی بارش جس میں سبزہ اور گھاس اگتا ہے۔ سبز چارہ۔ المَرْبَع موسم بہار میں ہونے والی بارش۔ ـــ والمُرْتَبَع موسم بہار کی قیام گاہ۔ المِرْبَاع: وہ جگہ جس کی سبزی موسم بہار کے شروع میں اُگے۔ (ح) موسم بہار میں بچہ دینے والی اونٹنی۔ الرَّوْبَعَة (طب): اونٹ کے بچوں کی ایک بیماری۔ الرَّبِيعَة: باغ، توشہ دان۔ الرِّبِيعي من المساکن: موسم بہار گزارنے کی اقامت گاہ۔ الرَّبِيعيّات (ن): ایک پودا۔ المَرَابِيع موسم بہار کے شروع میں ہونے والی بارشیں۔

۵۔ رَبَعَ ـ رَبْعًا الرجلُ: اپنی قوت کا اندازہ کرنے کے لئے پتھر اٹھانا۔ رَابَعُوا الحِمْلَ: بوجھ اٹھانے کی لکڑی کو بوجھ کے نیچے لگانا۔ کہا جاتا ہے: رابعتُه: میں نے اس کے ساتھ مل کر بوجھ اٹھانے والی لکڑی کے ذریعے بورا اونٹ کی پیٹھ پر رکھا۔ اِرْتَبَعَ الحجرَ: پتھر اٹھانا۔ اِسْتَرْبَعَ البعيرُ للسير اونٹ کا چلنے کی طاقت پانا۔ ـــ [illegible] غبار اٹھنا۔ ـــ الرملُ: ریت کا تہ بتہ ہونا، تودہ لگنا۔ المِرْبَع و المِرْبَعَة: جانور پر بوجھ اٹھا کر رکھنے کی لکڑی۔ الرَّبِيعَة: طاقت آزمانے کے لئے اٹھایا جانے والا پتھر۔

٦۔ الرَّوْبَع: کمزور کمینہ۔ الرَّبِيعَة لوہے کی خود۔ اليَرْبُوع جمع يَرَابِيع (ح) ایک قسم کا چوہا جس کے اگلے پاؤں چھوٹے اور پچھلے لمبے ہوتے ہیں۔

○ رَبَعَ ـ رَبعًا: (گھوڑے کا) سرپٹ دوڑنا۔ ـ بیٹھنا، آلتی پالتی مارنا، چارزانو بیٹھنا، پالتی مار کر بیٹھنا، رہنا، ٹھہرنا، قیام کرنا۔ رَبَّعَ ہ کو چوگنا کرنا، کو چار سے ضرب دینا، چار گنا کرنا، کو مربع بنانا، کا مربع کرنا، تَرَبَّعَ: بیٹھنا، چارزانو بیٹھنا۔ تَرَبَّعَ علی العرش تخت پر بیٹھنا، چڑھنا۔ رَبْع جمع رُبُوع و رِبَاع و اَرْبَاع و اَرْبُع: گھر، رہائش گاہ، کوارٹر۔ رُبُوع: علاقہ، خطہ، عملداری، قلمرو، رقبہ، زمین۔ رَبْع لوگوں کا گروہ، لوگ۔ الربع الخالی: جنوبی عرب کا ریگستانی علاقہ۔ رِبع: حُمّىً الرِّبْع چوتھیا بخار، باری کا بخار۔ رُبْع جمع اَرْبَاع: چوتھائی، چوتھا حصہ، ایک خشک اشیاء ناپنے کا پیمانہ۔ رُبْع سَنَوِيّ سہ ماہی۔ رَبْعَة القَوَام و ربعة القامة: درمیانہ قد کا، درمیانہ جسم کا۔ رُبْعَة خشک اشیا ماپنے کا ایک پیمانہ۔ رَبَّاع: کھلاڑی (مکہ باز، کشتی باز، ویٹ لفٹر وغیرہ)۔ رَبِيع: موسم بہار، چوتھائی، چوتھا حصہ۔ اَرْبَعَة مؤنث اَرْبَع: چار۔ ذَوَاتُ الاربع: چوپائے۔ اَرْبَعَةَ عَشَر مونث اَرْبَعَ عَشْرَةَ: چودہ (۱۴)۔ اَرْبَعُون: چالیس۔ الاربعون: چالیسواں (کسی مرنے والے کی وفات کے بعد چالیسویں دن کی تقریب)۔ عيدُ الاربَعِين: حضرت عیسی علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا تہوار۔ رُبَاعِي چار پر مشتمل، چار گنا، چوگنا، چوہرا، چار تہ والا، چار حصوں پر شامل، چار پہلو، چوکھونٹا، چوگوشیہ، چوگوشہ شکل کا، چار زاویوں والا، چوگوشہ، چار اصلی حروف پر مشتمل، رباعی، چومصرعہ، جمع رُبَاعِيَات: رباعی، دوبیتی (شعر)۔ مُؤتَمَرٌ رُبَاعِيّ: چار ملکی کانفرنس۔ رُبَاعِي الاضلاع: چوگوشہ۔ رباعِي الأرجل: چوپایہ، چار پاؤں والا۔ مُحَرِّكٌ رُبَاعِيُ المِشْوار: چار چکروں والا انجن۔ الاَرْبَعاء و يوم الاربعاء: بدھ (کا دن)۔ يَرْبُوع جمع يَرَابِيع: چوہا اگلی چھوٹی اور پچھلی بڑی ٹانگوں والا۔ مَرْبَع جمع مَرَابِع: چراگاہ، گھاس والا قطعہ زمین۔ تَرْبِيع: قمری سہ ماہی۔ چوگوشہ شکل، چہار زاویہ شکل، مربع، چوکور۔ تَرْبِيعُ الدائرة: چکر کے نو درجے کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زاویہ کا فاصلہ۔ تَرْبِیْعَة جمع تَرَابِیع مربع، چوگوشہ شکل، چہار زاویہ شکل، چوکور، چار دیواری، احاطہ، صحن، چوک، مربع منقش تختہ، ٹائل، فرشی ٹائل۔ تَرْبِیعی مربعی، مربع۔ الرابع چوتھا۔ رَابِعًا چوتھے، چوتھے نمبر پر، چوتھی بات یہ کہ۔ مَرْبُوع درمیانے قد کا، درمیانے حجم کا۔ مُرَبَّع چہار تہوں والا، چارگنا، چوگنا، چوہرا، چہار پہلو، چوکور، چوگوشیہ، چوگوشہ شکل کا، چارزاویوں والا، مربع، مربع کا، چوگوشہ شکل، چہارزاویہ شکل، جمع مُرَبَّعَات چہار پہلو ٹکڑا، چوکھونٹا ٹکڑا، چوگوشیہ ٹکڑا، مربع۔ مِتر مربع مربع میٹر۔ مُرَبَّع الاضلاع چوگوشہ۔ مُرَبَّعَة جمع مُرَبَّعات سیکشن، ضلع، علاقہ، خطہ۔ مُرَابِع زرعی کام میں شریک جو پیداوار یا نقصان میں ایک چوتھائی کا حصہ دار ہو۔ جَلَسَ مُتَرَبِّعاً آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا۔

رَبِع ربع ـَ رَبْعًا القومُ فی النعیم خوش حال اور آسودہ زندگی گزارنا۔ رَبِع ـَ رَبْعًا عیشُہُ زندگی میں فراخ حالی نصیب ہونا۔ ـ الرجلُ بدکار و بے حیا ہونا صفت: رَبِع۔ رَبُع ـُ رَبَاعَةً بہت ہونا، کثیر ہونا۔ الأَرْبَع زیادہ، وسیع۔

ⓒ رَابِع خوشگوار، خوش آئند، مرغوب، پسندیدہ، پرلطف، آرام دہ، آسودہ، سکھی، خوشحال۔

ربق رَبَق ـِ رَبْقًا ہُ کو پھندے سے باندھنا۔ ـ ہُ فی الامر کو کام میں ڈالنا۔ رَبَّق ہُ کو پھندے سے باندھنا۔ کہا جاتا ہے: رَبَّقَ الرجلُ اثناءَ حَبْلِہٖ و اَرْبَاقَہُ اس نے اپنی بکری کے بچوں کے لئے رسی کا پھندا بنایا۔ ـــ ہ فی الأمر کو کام میں ڈالنا۔ ـــ الکلامَ تقریر کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ تَرَبَّقَ ہُ کو لٹکانا۔ کہا جاتا ہے: تَرَبَّقْتُ الشیءَ فی عُنُقی میں نے اس چیز کو اپنی گردن میں لٹکایا۔ اِرْتَبَقَ فی الحبالۃ پھندے میں پھنسنا۔ ـ فی الامر کسی کام میں پھنسنا۔ اِرْتَبَقْتُ فی حبالِہٖ میں اس کی جعل سازی میں پھنس گیا۔ الرِّبْق پھندوں والی رسی۔ الرِّبْقَة و الرُّبْقَة جمع رِبَق و رِبَاق و اَرْبَاق رسی میں پڑا ہوا پھندا۔ کہا جاتا ہے: حَلَّ رِبقتَہُ اس نے اس کی تکلیف ٹال دی۔ نقضوا الحِبالَ و اکلوا الرِّبَاقَ انہوں نے اپنے عہد و پیمان توڑ دیئے۔ الرَّبِیق پھندے میں بندھا یا پھنسا ہوا۔ المُرَبَّقَة چربی والی روٹی۔

ⓒ رِبق کچے چمڑے کا پھندا یا کمند، گھوڑوں کو پکڑنے کی رسی یا چمڑے کا پھندا۔ رِبْقَة و رُبْقَة جمع رِبَق و رِبَاق و اَرْبَاق: کمند، پھندا، پھانسی، جال، دام۔

ربلک: رَبَکَ ـُ رَبْکًا الشیءَ کو ملانا، خلط ملط کرنا۔ الربیکۃ مٹی گھولنا، گدلا کرنا۔ ـــ ہ کو کیچڑ میں ڈالنا۔ رَبِکَ ـَ رَبَکًا پر معاملہ گڈمڈ ہونا، بوکھلا جانا۔ صفت: رَبِک و رَبِیک۔ ارتبک فی الامر کسی معاملہ میں پھنس جانا اور اس سے چھٹکارانہ پاسکنا۔ ـ فی الوحل کیچڑ میں گرنا۔ ـــ فی کلامِہٖ گفتگو میں اٹکنا۔ ـــ الصیدُ فی الحبالۃ شکار کا جال میں تڑپنا، پھڑ پھڑانا۔ ـــ الامرُ معاملہ کا پیچیدہ ہونا۔ اِرْبَاکَ اِرْبِیکَاکًا رأیہُ: کی رائے کا گڑبڑ ہو جانا۔ ـ الرجلُ عن الامر: کام سے رک جانا۔ الربیکۃ گارا۔ دودھ ملا ہوا مکھن۔ کہا جاتا ہے: رَمَاہُ بِرَبِیکۃٍ اس نے اس کو ایک پیچیدہ معاملہ میں پھنسا دیا۔ ـــ و الرَّبِیک و الرَّبُوک پنیر، کھجور اور گھی سے تیار کیا ہوا کھانا جو کبھی اس میں پانی ملا کر پیا جاتا ہے۔ الأَرْبَک من الابل سیاہ رنگ کا اونٹ۔

ⓒ رَبَکَ ـُ رَبْکًا ہ کو مکدر کرنا، گدلا کرنا، میلا کرنا، خراب کرنا، خلط ملط کرنا، الجھانا، کو پیچیدہ کرنا، میں الجھاؤ ڈالنا۔ ـــ ہ/ ہا کو الجھانا، بوکھلانا، گڈمڈ کرنا، پریشان کرنا، کو الجھن میں ڈالنا، درہم برہم کرنا۔ رَبِکَ ـَ رَبَکًا: کسی الجھی اور مشکل حالت یا صورت میں ہونا۔ اِرْتَبَکَ بوکھلانا۔ ـــ فی میں پھنس جانا۔ رَبِک مشکل اور الجھی ہوئی حالت، صورت۔ رَبِک الجھا ہوا، بوکھلایا ہوا، مشکل میں، مشکلات سے گھرا ہوا۔ اِرْتِبَاک جمع اِرْتِبَاکات پریشانی، دشواری، الجھاؤ، پیچ، لپیٹ، گتھی، مشکل معاملہ، گرہ، پیچیدگی، الجھن، مشکل، بے ترتیبی، بدنظمی، ابتری، گڑبڑ، بری یا گندی حالت، کھچڑی، افراتفری، پراگندگی، خلط ملط، پریشانی، گھبراہٹ، پیٹ کی خرابی، ہاضمہ کی خرابی۔ مُرْبِک الجھن میں ڈالنے والا، بوکھلانے والا، پریشان کن، حواس باختہ کرنے والا، بدحواس کرنے والا، گھبرا دینے والا، کام بگاڑ دینے والا۔ مُرْتَبِک بوکھلایا ہوا، پیچیدہ، پھنسا ہوا، پریشان، حواس باختہ، بدحواس، گھبرایا ہوا۔ ـ فی میں پھنسا ہوا۔

ربل ۱۔ رَبَلَ ـُ رَبْلًا القومُ: قوم کی تعداد کا زیادہ ہونا، بڑھنا۔ ـــ ت المَرَاعِی چراگاہوں میں گھاس کا بکثرت ہونا۔ رَبَّلَ و اَرْبَلَ المکانُ کسی جگہ کا خزاں کے پودے اگانا۔ تَرَبَّلَ موسم خزاں کی سبزی کھانا، پرگوشت ہونا۔ ـــ جسمُہُ کے جسم کا پھولنا۔ ـ القومُ موسم خزاں کی سبزی چرانا۔ ـــ ت الارضُ زمین کا خریف کی سبزی سے ہرا بھرا ہونا۔ خزاں کے آنے پر خشک ہو جانے کے بعد سرسبز ہونا۔ اِرْتَبَلَ مالُہُ کا مال زیادہ ہونا۔ الرَّبَل جمع رُبُول بغیر بارش کے پھوٹنے والے پودے وغیرہ۔ الرَّبَل (ن): بہت سبز پودا، روئیدگی۔ رَجُلٌ رَبِلٌ جسیم آدمی۔ الرَّبْلَة و الرَّبَلَة جمع رَبَلات رانوں کی جڑیں، ہر جگہ کا موٹا گوشت۔ الرَّبِیل موٹا، فربہ۔ الرَّبِیلَة: فربہی، رطوبت، نعمت، زندگی کی آسودگی۔ الرَّبَالَة: گوشت کی کثرت۔ کہا جاتا ہے: ضَمِرَ بعدَ رَبَالَةٍ وہ گوشت کی کثرت کے بعد دبلا پتلا ہو گیا۔ الرِّبْبَال جمع رَبَابِیل دراز اور لپٹی ہوئی نبات۔ المِرْبَال وہ زمین جس میں خزاں کے موسم میں جھاڑیاں یا درخت بکثرت ہوں۔

۲۔ رَابَلَ بدکردار ہونا، برائی کی تاک میں رہنا۔ تَرَبَّلَ شکار کرنا۔ تَرَابَلَ لوٹ ڈالنا اور شیر کا سا کام کرنا۔ الرَّبِیل چور جو تن تنہا لوٹ ڈالے۔ الرِّیبال جمع رَبَابِیل شیر۔

ⓒ رَبِل فربہ، جسیم، موٹا تازہ، گوشت دار، لحیم شحیم (شخص)۔ رَبْلِی و رَبَلِی: گوشت دار، فربہ، لحیم شحیم، گداز۔ رَبْلَة جمع رَبَلات (جسم کے) گوشت (کا ڈلا)۔ رَبِیل: گوشت دار، گداز، موٹا، فربہ، لحیم شحیم۔ رَبَالَة موٹاپا، فربہی۔

ربن اَرْبَنَ ہُ کو بیعانہ دینا۔ تَرَبَّنَ جہاز کا کپتان بننا۔ الرُّبُون و الاربون و الأُرْبَان: بیعانہ۔ الرُّبَّان و الرُّبَّانی جمع رَبَابِنة و ربابین جہاز کا ملاح، جہاز کا کپتان۔ رُبَّانُ کلِّ شیءٍ ہر چیز کا بڑا حصہ، زمرہ۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَہٗ بِرُبَّانِہٖ اَوْ بِرُبَّانِہٖ اس نے اس کو پورا کا پورا لے لیا۔

ربماد کھو: رُبّ۔

ربا ۱۔ رَبَا ـُ رِبَاءً و رُبُوًّا المالُ: مال کا زیادہ ہونا، بڑھنا۔ رَابَی مُراباۃً سود پر مال دینا۔ اَرْبَی اِرْبَاءً سود لینا۔ ـ الشیءَ چیز کو بڑھانا۔ ـ علیہ فی کذا و اِرْتَبَاہُ اِرْتِبَاءً میں کو زیادہ کرنا۔ الرِّبا سود، زیادتی، بیاج۔ رِبَوِی سودی، سود کا، سود کے متعلق۔ الرِّبْو جمع اَرْبَاء جماعت۔ الرَّبَاء زیادتی، احسان، مہربانی۔ کہا جاتا ہے: لِفُلَانٍ عَلَیَّ رَبَاء: فلاں شخص کا مجھ پر احسان اور مہربانی ہے۔ الرَّبْوَة (ع ح) دس لاکھ (عشر کرات) یاد رہے کہ الکرۃ ایک لاکھ یعنی مائۃ الف کو کہتے ہیں۔ الرِّبْوَة جمع رِبی دس ہزار کے قریب لوگوں کی جماعت۔

۲۔ رَبَا ـُ رُبُوًّا و رُبُوًّا الولدُ بچہ کا نشوونما پانا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے: رَبَیْتُ و رَبِیتُ رَبَاءً و رَبِیًّا میں نے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نشوونما پائی۔ رَبَّی تَرْبِیَةً و تَرَبَّی الولدَ: بچہ کو پالنا، بچہ کی پرورش کرنا، بچہ کو مہذب بنانا۔ رَابَی مُرَابَاةً الرجلَ: کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اَرْبَی اِرْبَاءً ہٗ: کو امید دلانا۔ الأُرْبِیَّة: گھر کے مرد، چچازاد بھائی۔ کہا جاتا ہے: جاء فی أُرْبِیَّةِ قومِهِ: وہ اپنے گھر والوں اور قبیلہ کے لوگوں میں آیا۔

۳۔ رَبَا ۔ رِبَاءً و رُبُوًّا الرابیةَ: ٹیلہ پر چڑھنا۔ الرَّبْوا ارْبَاء: ٹیلہ۔ الرَّابِیَة جمع رَوَابٍ و الرُّبْوَة و الرَّبْوَة و الرِبْوَة جمع رُبًی و رُبِیّ: ٹیلہ۔ الرَّبَاة و الربـاوَة: ٹیلہ۔ الأُرْبِیَّة (ع ا): ران کی جڑیا اوپری حصے اور پیٹ کے درمیان کا حصہ۔

۴۔ رَبَا ۔ رَبْوًا الفرسُ: گھوڑے کا پھولنا، گھوڑے کا بھاگنے سے سانس چڑھنا۔ الرَّبْو جمع اَرْبَاء: چڑھا ہوا سانس۔ ـــــ والرَّبْوَة (طب): جوف کی سوجن، ضیق النفس۔

۵۔ رَبَّی التفاحَ او غیرہ بالسکّر: سیب وغیرہ کا مربہ ڈالنا۔ المُرَبَّی (ط): پھلوں کا مربہ یا نشاستہ وغیرہ میں شکر ڈال کر بنائی ہوئی مربہ نما مٹھائی۔

۶۔ الرُّبْیَة (ح): حشرات الارض کی قسم کا ایک کیڑا۔

○ رَبَا ۔ رَبَاءً و رُبُوًّا: زیادہ ہونا، بڑھنا۔ ـ علی/عن: (تعداد) سے زیادہ ہونا۔ مایربو علی المئةِ: سو سے زیادہ۔ رَبَّی: بڑھانا یا بڑھنے دینا۔ ـــ ہ: کو پالنا، پوسنا، پرورش کرنا، کی تربیت کرنا، کو تعلیم دینا، بچہ کو پڑھانا، سکھانا۔ ـــ ہ: (مرغیوں، چوپائے، مویشی) کی پرورش کرنا، کی نسل بڑھانا، (اسلوب وغیرہ) کو ترقی دینا۔ رَابَی: سودی کاروبار کرنا۔ اَرْبَی ہ: کو بڑھانا، زیادہ کرنا۔ ـــ علی: (تعداد، عمر، پیمانہ) سے زیادہ ہونا۔ تَرَبَّی: پرورش پانا، تعلیم حاصل کرنا۔ رَبْو: ضیق النفس، دمہ۔ رُبْوَة و رِبْوَة جمع رُبًی: پہاڑی ٹیلہ۔ رِبْوَة جمع رِبْوَات: دس ہزار، لاکھوں۔ رِبًا: سود، بھاری سود۔ رِبْوِیّ: بھاری سود پر قرض دینے والا۔ رَبَاء: بیشی، زیادتی، فاضل مقدار، مہربانی، احسان۔ ـــ علی: پر برتری۔ تَرْبِیَة: تعلیم، تربیت، پڑھانا، سکھانا، علم تعلیم، فن تعلیم، پرورش (حیوانات) نسل کشی۔ سیئی التربیة: بدتربیت، ناشائستہ۔ قلیلُ التربیة: بداطوار، بدتربیت، کج خلق، بداخلاق۔ علم التربیة: علم یا فن تعلیم۔ تَرْبِیةُ الأَطْفَال: بچوں کی نگہداشت۔ التربیة البدنیة: جسمانی تربیت۔ تربیة الحَیَوَان: مال مویشی پالنا۔ تربیةُ الدَجَاج: چوزے پالنا، مرغیاں پالنا۔ تربیة السَمَك: مچھلیوں کی پرورش۔ تربیة النباتات: پودوں کی زراعت، پودے لگانا۔ تَرْبَوِی و تَرْبِیوِی: مدرسی، معلمانہ۔ رَابِیَة جمع رَوَابٍ: پہاڑی، ٹیلہ۔ مُرَبٍّ جمع مُرَبُّون: تعلیم دینے والا، معلم، مدرس، ملاں، میاں جی (مال مویشی کی) پرورش کرنے والا۔ مُرَبِّیَة جمع مُرَبِّیَات: اُستانی، آتون، آتو، آتو جی، گورنس۔ مُرَبًّی: تربیت دیا گیا، تعلیم دیا گیا، پرورش کیا گیا، اچھی تربیت والا، اچھے اطوار والا، جام، پھلوں کا مربہ۔ (جمع) مُرَبَّیَات: مربہ جات۔ مُرَابٍ: سودخوار، سودخور، بنیا، مہاجن۔ مُتَرَبٍّ: اچھی تربیت والا، اچھے اطوار والا۔

○ رِبُورتاج جمع ربورتاجات: رپورٹ، رپورتاژ۔

رتّ: ا۔ رَتَّ ۔ رَتًّا: ہکلانا، تتلانا۔ صفت: اَرَتّ مؤنث رَتَّاء و رُتّی جمع رُتّ۔ اَرَتَّ اِرْتَاتًا ہُ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہکلا کرنا یا بنانا۔ الرَّتّ جمع رُتُوت: سردار، پیشوا۔ کہا جاتا ہے: هو من رُتُوتِ الناس: وہ لوگوں کا ایک سردار ہے۔ ـــ جمع رِتَتَة: سخت نر سور، جنگلی سور۔ الرُّتَّة: ہکلاپن، تتلاپن۔

۲۔ رَتْرَتَ: "تا" یا "را" بولنے میں اٹکنا، ہکلانا۔

○ اَرَتّ مؤنث رَتَّاء جمع رُتّ: ہکلا، تتلا۔

رتأ: رَتَأَ ۔ رَتْوءًا ہُ: کا گلا گھونٹنا۔ ـــ العقدةَ: گرہ سخت لگانا۔ ـــ فی المکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـــ الرجلُ: چلا جانا۔ اِرْتَأَ: رک رک کر ہنسنا۔

رتب: ا۔ رَتَبَ ۔ رَتْبًا و رُتُوبًا الشیءُ: چیز کا اپنی جگہ بلاحرکت ثابت و قائم رہنا، سیدھا کھڑا ہونا۔ کہا جاتا ہے: رَتَبَ فی الصلوة: وہ نماز میں سیدھا کھڑا رہا۔ رَتَّبَ ہُ: کو قائم رکھنا۔ اَرْتَبَ: سیدھا کھڑا ہونا۔ ـــ الغلامُ الکعبَ: لڑکے کا ایڑی کھڑی کرنا۔ تَرَتَّبَ: بلاحرکت و جنبش کھڑا ہونا۔ الراتِب جمع رَوَاتِب: تنخواہ۔ عیش راتِب: دائمی عیش۔ الرَوَاتِب: سنن موکدہ۔ التُرْتُب و التُرْتَب: قائم و ثابت چیز، دوام، ہیشگی، مٹی، غلام جو تین آقاؤں کی غلامی میں رہ چکا ہو۔ الرَتِیب: ہمیشہ ایک ہی طرح پر رہنے والا۔

۲۔ رَتَّبَ ہُ: کو ترتیب دینا، درجہ پر رکھنا۔ اَرْتَبَ: غنی کے بعد سوال کرنا۔ تَرَتَّبَ: ترتیب میں ہونا۔ الرَتَب: چھنگلیا اور اس کے برابر والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ اور چھنگلیاں کے برابر والی اور بیچ کی انگلی کے مابین جگہ۔ الرَتَب: بمعنی الرَکَب، سختی، دشواری، ابھری ہوئی زمین، قریب قریب چٹانیں جو ایک دوسرے سے بلند ہوں۔ الرتیب (ا ع): فوجی عہدیدار جیسے [illegible] درجہ، مرتبہ۔ الرَتَبَة: انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔ المَرْتَبَة جمع مَرَاتِب: درجہ، اعلیٰ درجہ۔ التَراتُب (ا ع): فوجی درجوں کا سلسلہ۔

۳۔ التُرْتُبَّة: نیم راستہ۔

۴۔ رُتْبَاغا او رُوتاباغا (ن): کرم کلا، بند گوبھی۔

○ رَتَّبَ ہ: کی صف بندی کرنا، کو ترتیب دینا، کو حسب مرضی استعمال کرنا، کو آراستہ کرنا، سجانا، آراستہ پیراستہ کرنا، مزین کرنا، دکان کی کھڑکی مال سے سجانا، کو معین کرنا، طے کرنا، کو باقاعدہ بنانا، نظام کے تحت لانا، کو ترتیب سے رکھنا۔ ـــ ہ: کو تیار کرنا، الگ کرنا، مخصوص کرنا، خاص مقصد کے لئے متعین کرنا۔ ـــ ہ ل: کے لئے (تنخواہ) مقرر کرنا۔ ـــ ہ علی: کو کا نتیجہ بنانا، کو سے حاصل کرنا، کو سے مشتق کرنا، کو کا انجام بنانا۔ تَرَتَّبَ: مرتب ہونا، منظم ہونا، قائم ہونا، ایک طرف رکھا جانا، الگ کیا جانا، مقرر ہونا۔ ـــ علی: کا ماتحت ہونا، کا نتیجہ یا انجام ہونا، کے نتیجہ کے طور پر واقع ہونا، سے مشتق ہونا، سے نکلنا، اچانک آجانا، سے نتیجہ نکلنا، کے باعث ہونا۔ تَرَتَّبَ بِذِمَّتِهِ: کا مقروض ہونا، قرض دار ہونا۔ رُتْبَة جمع رُتَب: ڈگری، درجہ، گریڈ، سطح، عہدہ، بڑی یا مسلمہ حیثیت، رتبہ، حیثیت، منصب، طبقہ، خوبی کمال، فوجی عہدہ، پادریوں کا منصب، پادری کا رتبہ، مذہبی رسوم۔ کتاب الرتب: (رومن کیتھولک چرچ کے مراسم)۔ رَتَابَة: اکتا دینے والی یکسانی۔ رتیب: یکسانی کے باعث اکتا دینے والا۔ رُتَبَاء: نان کمشنڈ افسران (فوج میں)۔ مَرْتَبَة جمع مَرَاتِب: قدم، سیڑھی کا ڈنڈا، گدا، گربڑ، ڈگری، عہدہ، طبقہ۔ تَرْتِیب جمع تَرْتِیبَات: ترتیب، انتظام، اہتمام، صف بندی، سجاوٹ، آراستگی، سلسلہ، تسلسل، تواتر، بناوٹ، نظام، ترتیب (مکانات کی)، تنظیم، تیاری، انتظام، قدم، بہم رسانی عشائے ربانی کی رسم۔ بالترتیب: ایک ایک کرکے، مناسب تسلسل میں۔ من غیر ترتیب: بے ترتیب، بے سلیقہ، بے ترتیبی میں۔ تَرْتِیبِیّ: ترتیبی (عدد)۔ عدد ترتیبی: ترتیبی عدد۔ رَاتِب: یکسانی کے باعث اکتا دینے والا جمع رَوَاتِب: تنخواہ، مشاہرہ، جمع رَوَاتِب: عبادت کی بعض نفلی شکلیں۔ مُرَتَّب: انتظام کیا ہوا، منظم کیا ہوا، قانون کے مطابق بنایا ہوا وغیرہ جمع مُرَتَّبَات: تنخواہ مشاہرہ۔

رتج: ا۔ رَتَجَ ۔ رَتْجًا الباب: دروازہ بند کرنا۔ رَتِجَ ۔ رَتَجًا الخطیبُ: مقرر کا تقریر میں رکنا، پر کلام کا دشوار ہونا۔ اَرْتَجَ الباب: دروازہ کو مضبوطی سے بند

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا۔ ـــ ت الدجاجةُ: مرغی کے پیٹ کا انڈوں سے بھر جانا۔ ـــ البحرُ: سمندر کا جوش میں آنا۔ ـــ الثلجُ: برف کا پیہم گرنا۔ اُرْتِجَ و اُرْتُتِجَ و اسْتُرْتِجَ علي الخطيب: مقرر کا تقریر میں رکنا۔ سكّةٌ رِتْجٌ: بندگلی۔ مالٌ رِتْجٌ: نا قابل حصول مال۔ الرَّتَج و الرِّتَاج: بڑا دروازہ، پھاٹک، بڑا بند دروازہ جس میں کھڑکی ہو۔ الرِّتَاجَة جمع رَتَائِج: چٹان۔ ـــ و المَرْتَج جمع مَرَاتِج: تنگ راستہ۔ المِرْتَاج: چٹخنی، جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے۔

٢۔ رَتَجَ ـُ رَتَجَاناً الصبيُّ: بچہ کا چلنے لگنا۔

٣۔ اَرْتَجَ الخصبُ: سرسبزی کا عام ہونا۔ مكانٌ مُرْتِجٌ: بہت سبزہ والی جگہ۔

○ رَتَجَ ـُ رَتْجاً ہ: (دروازے وغیرہ) کو قفل لگانا، تالا لگانا، کو بند کرنا، دروازے کی بلی لگانا، دروازے کی چٹخنی چڑھانا۔ رَتِجَ ـَ رَتَجًا: کی زبان کو تالا لگ جانا، بے زبان ہونا، ہکلانا۔ اُرْتِجَ عليه: کی زبان سے بات نہ نکلنا، بے زبان ہو جانا، کی سمجھ میں نہ آنا کہ کیا کہے، (کیلئے) موزوں الفاظ نہ ملنا۔ رِتَاج جمع رُتُج و رَتَائِج: پھاٹک، راستہ، گذرگاہ۔ مُحْكَمُ الرِّتَاج: مضبوطی سے چٹخنی لگایا ہوا (پھاٹک)۔

○ رَتِينَج بمعنى رَاتِينَج: بروزہ، گندا بروزہ۔

رتخ: رَتَخَ ـُ رُتُوخاً بالمكان: کسی جگہ رہنا، قیام کرنا۔ ـ عن الخير: بھلائی سے پیچھے رہنا، رکنا۔ ـ العجينُ: گندھے ہوئے آٹے میں پانی زیادہ ہونے سے اس کا پتلا ہو جانا۔ الرَّتَخَة: سخت کیچڑ، دلدل۔ جلدٌ اَرْتَخ: خشک یا سخت چمڑا۔

رتع: ١۔ رَتَعَ ـَ رَتْعًا و رُتُوعًا و رِتَاعًا: خوشحال ہونا، جو چاہنا حاصل کر لینا۔ ـــ في المكان: کسی جگہ خورد و نوش کی پوری آسودگی و فراوانی سے رہنا۔ صفت: رَاتِع جمع رُتَّع و رُتَّع و رِتَاع و رُتُوع و رَاتِعُون۔ ـ في مال فلان: کسی کے مال میں کھانے پینے میں خوب موج اڑانا۔ اَرْتَعَ القومُ: لوگوں کا سرسبز و شاداب زمین میں پہنچنا اور مویشی چرانا۔ ـ ت الارضُ: چرنے والے کو آسودہ و سیر کرنا۔ ـــ الغيثُ: بارش کا چارہ اگانا۔ ـ الدوابَّ: مویشیوں کو چرنے دینا۔ الرَّتِع: اپنی سب مرادیں پانے والا آسودہ حال۔ كَلأٌ رَتِع: چرنے والے کے لئے کافی گھاس۔ الرُّتْعَة: سرسبزی و شادابی کی کثرت۔ کہا جاتا ہے: اَسْمَنَني القيدُ و الرتعةُ: قید و آسودگی نے مجھ کو فربہ کر دیا۔ المُرْتِعُ: آسودہ حال جس کو سب کچھ ملے۔ المَرْتَع: چراگاہ۔ الرَّتَّاع: اپنے اونٹوں کو شاداب چراگاہوں میں لے جانے والا۔ الأَرْتَاعُ من الناس: لوگوں کی کثرت۔ کہا جاتا ہے: رايتُ اَرْتَاعًا من الناس: میں نے لوگوں کی کثرت دیکھی۔

٢۔ رَتَعَ ـَ رَتْعًا و رُتُوعًا و رِتَاعًا في لحمِ فلان: کسی کی غیبت کرنا۔

○ رَتَعَ ـَ رَتْعًا و رُتُوعًا و رِتَاعًا: (مویشیوں کا) چراگاہ میں چرنا، گھاس چرنا۔ ـــ: بہت زیادہ کھانا، جانوروں کی طرح کھانا، ڈٹ کر شراب پینا، کھل کھیلنا، کھل کر شراب پینا اور عیش اڑانا، بلا نوشی کرنا اور داد عیش دینا، اچھی اچھی چیزیں کھانا۔ ـــ في: سے لطف اندوز ہونا، کو جی بھر کے کرنا۔ اَرْتَعَ ہ: مویشیوں کو چراگاہ میں چرانا، کو باہر چرنے کے لئے چھوڑ دینا۔ مَرْتَع جمع مَرَاتِع: سرسبز چرنے کی جگہ، چراگاہ۔ ـ ل: کے لئے زرخیز زمین۔ مرتع: جرائم اور برائی وغیرہ پیدا کرنے کی جگہ۔

رتق: رَتَقَ ـُ رَتْقًا الثوبَ: کپڑے کی پھٹن کو درست کرنا، جوڑنا۔ ـ الفَتْقَ: پھٹن کی اصلاح کرنا۔ کہا جاتا ہے: رَتَقَ فتقَهُم: اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی۔ ـ الشيءَ: چیز کو بند کرنا۔ اِرْتَتَقَ الشيءُ: چیز کا جڑ جانا۔ الرَّاتِق (فا): مصلح، درست کرنے والا، اصلاح کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: هو الراتِق و الفَاتِق: وہ معاملہ کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ الرِّتَاق: دو کپڑے جن کے کنارے جوڑ دیئے ہوں۔ الرَّتَقَة جمع رَتَق: انگلیوں کے درمیان کی کشادگی۔ الرُّتُوق: بزرگی، عزت، شرف۔

○ رَتَقَ ـُ رَتْقًا ہ: کی مرمت کرنا، کو جوڑ جاڑ کر ٹھیک کرنا، پھٹی ہوئی جگہ کو سی دینا۔ رَتْق جمع رُتُوق: جوڑنا، مرمت کرنا، مرمت، رفو (جراب وغیرہ کا)۔

رتك: رَتَكَ ـِ رَتْكًا و رَتَكًا و رَتَكَانًا البعيرُ: اونٹ کا چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑنا، پویا دوڑنا۔ اَرْتَكَ البعيرَ: اونٹ کو پویا دوڑانا۔

○ رَتَكَ ـِ رَتْكًا و رَتَكًا و رَتَكَانًا: چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑنا، ڈلکی چلنا۔ مَرْتَك: سیندور، مردار سنگ۔

رتل: ١۔ رَتِلَ ـَ رَتَلاً الشيءُ: اچھے انتظام و ترتیب میں ہونا، صفت: رَتِل۔ رَتَّلَ الكلامَ: کلام کو اچھی ترتیب دینا۔ ـــ القرآنَ: قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوش اسلوبی سے پڑھنا۔ ـ الصلواتِ: مناجات گنگنانا۔ تَرَتَّلَ في القول: ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح بولنا۔ الرَّتَل (مص): عمدہ کلام، ہر پاکیزہ چیز۔ (ا ع): مسلح حفاظتی دستہ۔ ثغرٌ رَتَل: خوبصورت ہموار دانت۔ رَتَلُ السيارات: کاروں کا جلوس۔ الاَرْتَل: اچھی ترتیب والا۔ التَرْتِيل: خوش آوازی، پڑھتے وقت آواز کو سست اور ہلکی کرنا، گانے اور نماز پڑھنے میں خوش الحانی یا حسن ادائیگی۔ التَرْتِيلَة جمع تَرَاتِيل: (مسیحی اصطلاح میں) ترنم سے پڑھی جانے والی حمدِ باری تعالیٰ۔

٢۔ الأَرْتَل: تتلانے والا۔ الرُّتَيْلاء جمع رُتَيْلاوَات (ح): کیڑے مکوڑے جیسے مکھی مکڑی۔ (ن): سوسن کے پھول کے مشابہ پھولوں والا پودا۔

○ رَتِلَ ـَ رَتَلاً: باقاعدہ ہونا، باضابطہ ہونا، اچھی ترتیب والا ہونا، صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا۔ رَتَّلَ الكلامَ: اپنی بات کو خوبصورتی سے ادا کرنا۔ ـــ: مناجات گانا، یکساں لہجہ میں خوش الحانی سے پڑھنا۔ ـــ ہ: دینی گانے، یا حمد کے گانے گانا۔ رَتْل جمع اَرْتَال: ریلوے ٹرین۔ رتل آليّ: موٹروں کا دستہ۔ رُتَيْلاء: کھیتی کی کٹائی کرنیوالا، لم ڈھینگ پتنگا، ترن تلا۔ تَرْتِيل: قرآن مجید کی آہستہ تلاوت، مناجات گانا، یکساں آواز میں خوش الحانی سے تلاوت کرنا، حمدیں وغیرہ گانا جمع تراتيل: ترانہ حمد، بھجن، مناجات، مذہبی گیت۔ تَرْتِيلَة: بھجن، مناجات، ترانہ حمد۔ مُرَتِّل: گرجا کا گانے والا، گرجے کی بھجن منڈلی کا نوخیز قوال، گویا، گانے والا، گلوکار، کلاکار، گلاونت، مطرب، نغمہ خواں، گا کر پڑھنے والا۔

رتم: ١۔ رَتَمَ ـِ رَتْمًا ہُ: کو توڑنا، کوٹنا۔ ـ رَتِيماً: رتم کے دانے کھانے سے بیہوشی طاری ہونا۔ الرَّتَم واحد رَتَمَة (ن): ایک قسم کا درخت جس کا بیج مسور کے مشابہ ہوتا ہے۔ الرَّتِيم جمع رَتَامَى: رتم کھانے سے بیہوش ہونے والا۔

٢۔ رَتَمَ ـِ رَتْماً في بني فلانٍ: کسی قبیلہ وغیرہ میں پرورش پانا۔

٣۔ رَتَمَ ـِ رَتِيماً: سست چلنا۔ ـــ الرَّتَم: پانی سے بھرا ہوا تو شہ دان، سڑک، راستہ۔ الرَّتِيم جمع رُتَامَى: آہستہ چال و رفتار۔

٤۔ ما رَتَمَ بكلمةٍ: وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ الرَّتَم: آہستہ کلام، کامل حیاء۔

٥۔ اَرْتَمَ: یادداشت کے لئے انگلی پر دھاگا لپیٹنا۔ ارتمتُ زيداً: میں نے زید کی انگلی میں کسی کام کو یاد دلانے کے لئے دھاگا باندھا۔ تَرَتَّمَ و اِرْتَتَمَ: بمعنى اَرْتَمَ۔ الرَّتْمَة جمع رَتْم و رِتَام و الرَّتِيمَة جمع رَتَائِم: وہ دھاگا جو کسی کام کو یاد دلانے کے لئے انگلی میں باندھا جاتا ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۶۔ الرُّتَام: فانی لاش، (کسی شخص کا) جسم۔ شرٌّ تُرْتُمٌّ و تُرْتُمٌ: دائمی برائی۔

○ رَتَمَ -رَتْماً بِكَلِمَةٍ: کوئی لفظ کہنا، بولنا (صرف نفی کے ساتھ)۔ رَتَم (اسم جنس واحد رَتَمَة: مسور جیسے بیج اور تیز خشبودار پودے کے پھولوں جیسے پھولوں والا ایک قسم کا درخت۔ رَتْمَة و رَتِيمَة جمع رَتَائِم و رِتَام: یاددلانے کے لئے انگلی پر باندھا جانے والا دھاگا۔

رتن: ا۔ رَتَنَ -رَتْناً الشحمَ بالعجين: گندھے ہوئے آٹے میں چربی ملانا۔

۲۔ الراتِينج او عَرَقُ الشجر (ك): رال، گوند، بروزہ، گندابروزہ۔ الراتِينَجِيَّة (ن): جنگل کے درختوں کی ایک جنس معتدل آب و ہوا کے علاقوں خصوصاً پہاڑی یورپ، ایشیا اور امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ آرائش کے علاوہ اس کی لکڑی صنوبر کے مشابہ ایک درخت کی طرح استعمال کی جاتی ہے۔

رتا: ا۔ رَتَا -رَتْوًا هُ: کو باندھنا۔ — القلبَ: دل کو تقویت دینا۔ — الدلوَ: ڈول کو نرمی سے کھینچنا، آہستہ سے نکالنا۔ — هُ اليه: کو سے ملانا۔

۲۔ رَتَا -رَتْوًا هُ: کو ڈھیلا کرنا۔ — رَتْوًا و رُتُوًّا برأسه: سر سے اشارہ کرنا۔ — الرجلُ: قدم رکھنا۔ رُتِيَ فی ذِرْعِهِ: اس کا بازو کٹ گیا۔ الرَّتْوَة: قدم۔

۳۔ الرَّتْوَة: بلند زمین، لحہ، حد نظر۔ کہا جاتا ہے: بيننا و بينهم رَتْوَةٌ: ہمارے اور ان کے درمیان حد نظر جتنی دوری ہے۔

○ رَتَا -رَتْوا و رَتْيًا هُ: جراب وغیرہ کی مرمت کرنا، بھرنا، رفو کرنا۔

○ رُتُوش: نوک پلک درست کرنا۔

○ رَتِينج و راتِينج: بروزہ، گندابروزہ۔

○ رَتِينَة جمع رَتَائِن: تابندہ شعلہ پوش جالی یا گیس کا مینٹل (mantle)۔

رث: ا۔ رَثَّ -رَثَاثَةً و رُثُوثَةً الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا، صفت: رَثٌّ جمع رِثَاث۔ أَرَثَّ إِرْثَاثًا الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ — الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ الرَّثُّ جمع رِثَاث: گھر کا گھٹیا سامان۔ کہا جاتا ہے: كلامٌ غَثٌّ رَثٌّ: گھٹیا کارہ کلام۔ الأَرَثّ: بوسیدہ۔ الرَّثِيث: بوسیدہ۔ الرِّثَّة جمع رِثَث و رِثَاث: گھر کا ردی سامان، کمزور لوگ۔

۲۔ أُرْتُثَّ: زخمی کو میدان جنگ سے ایسی حالت میں لایا جانا کہ اس میں زندگی کی رمق باقی ہو۔ صفت: مُرْتَثّ۔ الرَّثِيث: زخمی جس میں زندگی کی رمق باقی ہو۔

○ رَثَّ -رَثَاثَةً و رُثُوثَةً: (لباس وغیرہ) کا شکستہ حال ہونا، بوسیدہ ہونا، پھٹا پرانا ہونا، فرسودہ ہونا، خراب اور گھسا ہوا ہونا۔ رَثٌّ جمع رِثَاث: پرانا، بوسیدہ، گھسا ہوا، فرسودہ، پھٹا پرانا، شکستہ حال، پامال، گھسا پٹا۔ رَثُّ الهَيْئَة: پھٹی پرانی وضع۔ رِثَّة: پرانی دقیانوسی چیزیں، پھٹے پرانے کپڑے۔ رَثِيث: پرانا، پھٹا پرانا، خستہ، فرسودہ، گھسا ہوا، پامال، تار تار۔ رَثَاثَة: خستہ حالی، کھردراپن، ریختہ پن۔ رُثُوثَة: بمعنی رثاثة۔

رثأ: ا۔ رَثَأَ -رَثْأً اللبنَ: دودھ کو گاڑھا کرنا، دہی جمانا۔ — الشيءَ بالشيءِ: چیز کو چیز سے ملانا۔ — غضبَهُ: کا غصہ ٹھنڈا ہونا۔ أَرْثَأَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔ اِرْتَثَأَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔ — الرَّثِيئَة: دہی پینا۔ — عليهم الامرُ: پر معاملہ کا گڈمڈ ہونا۔ — في رأيه: اپنی رائے میں گڑبڑی کرنا۔ الرَّثِيئَة: رثأ اللبنَ سے اسم، دہی، میٹھا ملا ہوا ترش دودھ۔

۲۔ الرَّثْءُ و الرَّثْأَة: حماقت، کم فہمی، دل کی کمزوری۔ الرَّثِيئَة: حماقت۔ رجلٌ مَرْثُوءٌ: کمزور دل والا، کم فہم آدمی۔

رثد: ا۔ رَثَدَ -رَثْدًا و اِرْتَثَدَ المتاعَ: سامان کو اوپر نیچے رکھ کر ترتیب دینا۔ رَثِيد و مَرْثُود: اوپر نیچے ترتیب سے رکھا ہوا سامان۔ الرَّثَد: مرتب و منظم سامان و اسباب۔ رَثَدُ البيتِ: گھر کا ردی سامان۔

۲۔ رَثِدَ -رَثَدًا و ارْثَدَّ الماءُ: پانی کا گدلا ہونا۔

۳۔ ارْثَدَّ القومُ: ایک جگہ بصورت جماعت قیام پذیر ہونا اور کسی اور جگہ نہ جانا۔ کہا جاتا ہے: اِحْتَفَر حتی ارْثَدَّ: وہ کھودتے کھودتے تہ زمین تک پہنچ گیا۔ الرِّثْدُ و الرِّثْدَة: لوگوں کی جماعت جو ایک جگہ پڑاؤ ڈالے رہے۔

۴۔ المَرْثَد و المَرْثِد: فیاض و سخی آدمی۔

رثط: رَثَطَ -رُثُوطًا و ارْثَطَ و تَرَثَّطَ فی قعوده: ٹک کر اور جم کر بیٹھنا۔

رثع: ا۔ رَثِعَ -رَثَعًا: بہت لالچ و حرص رکھنا، صفت: رَثِعٌ جمع رَثِعُون۔

۲۔ اِرْثَعَنَّ اِرْثِعْنَانًا المطرُ: بارش کا پیہم برسنا۔ — فلانٌ: کمزور اور ڈھیلا ہونا۔ — الشعرُ: بالوں کا لٹکنا۔

رثم: رَثَمَ -رَثْمًا الانفَ: ناک توڑ کر خون بہانا۔ رَثِيم و مَرْثُوم: ٹوٹی ہوئی خون بہاتی ناک۔ رَثِمَ -رَثَمًا و اِرْثَمَّ الفرسُ: گھوڑے کی ناک کے سرے پر سفید داغ ہونا۔ صفت: رَثِم و أَرْثَم مؤنث رَثِمَة و رَثْمَاء جمع رُثْم۔ الرُّثْم

الرُّثْمَة: گھوڑے کی ناک کے سرے پر کا سفید داغ۔ المَرْثِم و المِرْثَم جمع مَرَاثِم: ناک۔ الرَّثْمَة جمع رِثَام: ہلکی بارش۔

رثا: ا۔ رَثَا -رُثُوًّا الميتَ: میت پر رونا اور اس کی خوبیاں گننا، کے مرثیہ میں اشعار نظم کرنا۔ رَثَى -رَثْيًا و رِثَاءً و رِثَايَةً و مَرْثَاةً و مَرْثِيَةً الميتَ: میت پر رونا اور اس کی خوبیاں گننا۔ — لهُ: پر شفقت و رحم کرنا۔ — رِثَايَةً عنه حديثًا: کو یاد کرنا۔ رَثَّى و تَرَثَّى الميتَ: میت پر رونا اور اس کی خوبیاں گننا۔ الرَّثَّاءَة و الرَّثَّايَة: نوحہ کرنے والی عورت۔ المَرْثَاة و المَرْثِيَة جمع مَرَاثٍ: مرثیہ، وہ اشعار وغیرہ جس میں میت کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں۔ المَرَاثِي السبع: عرب کے سات مشہور و معروف مرثیے۔

۲۔ رَثِيَ -رَثًى و رَثْيًا: جوڑوں میں درد محسوس ہونا۔ الرَّثْيَة: کمزوری، پژمردگی، حماقت، جوڑوں کا درد۔ الرَّثْيَة: کمزوری، پژمردگی، حماقت۔ رجلٌ مَرْثُوٌّ: کمزور عقل والا۔

○ رَثَا -رَثْوًا ہ: مرنے والے پر رونا، کا ماتم کرنا، پر ہاتھ ملنا، غم و افسوس کرنا، آہ و زاری کرنا، نوحہ کرنا، آہ و فغاں کرنا، مرثیہ میں مرنے والے کی تعریف کرنا، جنازہ میں تقریر کے دوران مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنا۔ رَثَى -رَثْيًا و رِثَاءً و مَرْثِيَةً و مَرْثَاةً ہ: مرنے والے پر رونا، کا ماتم کرنا، پر غم و افسوس کرنا، آہ و زاری کرنا، نوحہ کرنا، آہ و فغاں کرنا، مرثیہ میں مرنے والے کی تعریف کرنا، جنازہ کے دوران تقریر میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنا، مرنے والے کا ماتم کرنا، پر درد انگیز اشعار کہنا، کا مرثیہ یا نوحہ لکھنا۔ — ل: کا افسوس کرنا، ماتم کرنا، غم کرنا، پر ترس کھانا، رحم کرنا۔ رَثَاهُ بمرثاةٍ: مرنے والے پر درد انگیز اشعار کہنا، مرثیہ یا نوحہ لکھنا، مرنے والے کا ماتم کرنا اور مرثیہ میں اس کی تعریف کرنا اور خوبیاں بیان کرنا۔ شَيْءٌ يُرْثَى لَهُ: قابل رحم، افسوسناک، قابل افسوس (چیز)۔ رَثْي: گریہ، آہ و زاری، ماتم، فغاں، رونا۔ رِثَاء: گریہ، آہ و زاری، ماتم، فغاں، رونا، افسوس، ماتمی اشعار۔ رَثْيَة جمع رَثَايَات: گنٹھیا، نقرس۔ مَرْثِيَة و مَرْثَاة جمع مَرَاثٍ: مرثیہ، نوحہ، ماتمی بحر میں لکھی ہوئی نظم، ماتمی راگ، تدفین کے وقت کا گانا۔

رج: ا۔ رَجَّ -رَجًّا هُ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ — و رُجَّ رَجًّا: ہلنا، متحرک ہونا، حرکت کرنا۔ اِرْتَجَّ البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا۔ الرَّجَّة: ہلنا۔ اِرْتَجَّ الكلامُ: گفتگو کا ملتبس ہونا۔ رَجَّةُ القومِ: کی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

آوازوں کا اختلاط۔

۳۔ رَجَاجُ الغنم او الناس: کمزور ولاغر بھیڑ بکری یا انسان۔ کہا جاتا ہے: نَعْجَةٌ رَجَاجَةٌ: لاغر بھیڑ۔

۴۔ رَجْرَجَ: بے آرام ہونا، تھکنا ۔۔۔ ہٗ: کو حرکت دینا۔ تَرَجْرَجَ: حرکت کرنا، بے قرار ہونا، کانپنا۔ ۔ الشیءُ فی محلّه: چیز کا اپنی جگہ آ جانا۔ الرَّجْرَجُ: بے قرار، بے آرام، متحرک۔ الرجرج: زور سے ہلتی چیز۔ رِدْفٌ رَجْرَاجٌ: کسی جانور پر پیچھے سوار کا جانور کے چلنے پر ہلنا۔ الرجرجة: لڑائی میں بے شمار گروہ۔

۵۔ رَجْرَجَ الماءَ: کھود کر پانی نکالنا۔

۶۔ الرُّجْرُج (ن): ایک قسم کی گھاس جسے اونٹ چرتے ہیں۔ الرِجْرِج: تھوک۔ الرَّجْرَاج: دواء۔ ناسٌ رَجْرَاج: کمزور عقلوں والے لوگ۔ الرجرجة: تھوک، حوض میں گدلے پانی کا بقیہ، بے عقل شخص۔

○ رَجَّ ـُ رَجًّا ہ: کو ہلانا، زور سے ہلانا، جھنجھوڑنا، ہلانا، جلانا، جھولا جھلانا۔ رُجَّ: ہلنا، زور سے ہلنا، کانپنا، لرزنا، تھرانا، رعشہ طاری ہونا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، متحرک ہونا۔ اِرْتَجَّ: جھنجھوڑا جانا، ہلنا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، کانپنا، لرزنا، تھرانا، رعشہ طاری ہونا۔ رَجَّ: ہلنا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، ہلانا جلانا، جھولا جھلانا، زور سے ہلانا، جھنجھوڑنا، کپکپی، تشنج، اینٹھن۔ رَجَّة: اینٹھن، تشنج، کپکپی، دھکا، چوٹ، ٹکر، صدمہ، جھٹکا، تصادم۔ رَجَّاج: کانپنے والا، لرزنے والا، تھرانے والا، ہچکولے کھانے والا، جھٹکے کھانے والا، متحرک، ہلنے والا۔ اِرْتِجَاج: صدمہ، تصادم، جھٹکا، چوٹ، ٹکر، دھکا، کانپنا، لرزنا، ہلنا، تھرانا، رعشہ طاری ہونا، تھرتھراہٹ، لرزہ، کپکپی، رعشہ، زمین کا ہلنا، خوشی یا غم کی لہر جو جسم میں دوڑ جائے۔ اِرْتِجَاجُ المُخِّ: دماغی چوٹ، سر کی چوٹ۔

رجا: اَرْجَأَ الامرَ: کام کو موخر کرنا۔ ۔۔۔ تِ الحاملُ: حاملہ کا وقتِ وضع حمل قریب ہونا۔ ۔ الصائِدُ: شکاری کا کچھ نہ پانا۔

○ اَرْجَأَ ہ: کو ملتوی کرنا، ٹال دینا، آئندہ کے لئے اٹھا رکھنا، روک دینا، التواء میں ڈالنا، میں لیت و لعل کرنا، تاخیر کرنا، دیر کرنا۔ اِرجاء: التواء، دیر، توقف، تاخیر، ٹال مٹول، لیت و لعل۔

رجب: ا۔ رَجِبَ ـَ رَجَبًا منهُ: سے شرمانا ۔۔۔ رَجْبًا و رُجُوبًا و اَرْجَبَ الرجلَ: سے ڈرنا، کی تعظیم کرنا، کی عزت کرنا۔ رَجَّبَ ہٗ: سے ڈرنا، کی تعظیم کرنا ۔۔۔ الرجلُ: ماہِ رجب میں جانور ذبح کرنا۔ تَرَجَّبَ: ڈرنا، خوف زدہ ہونا ۔۔۔ الرجلَ: سے ڈرنا، کی تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ رَجَب جمع اَرْجاب و رُجُوب و رِجَاب: جمادی الآخرہ اور شعبان کے مہینوں کے درمیان ساتواں قمری مہینہ، جس کے ۳۰ دن ہوتے ہیں۔ وجہ تسمیہ عربوں کی اس ماہ کی ایامِ جاہلیہ میں تعظیم و توقیر ہے۔ کہا جاتا ہے: اَجَّلْتُكَ اِلٰی سبعةِ اَرْجاب: میں نے تمہیں رجب کے سات مہینوں یعنی سات سالوں تک مہلت دی۔ اس بارے میں ایک ضرب المثل ہے۔ عِش رَجَبًا تَرَ عَجَبًا: رجب کے مہینے تک زندہ رہ، عجائبات دیکھے گا۔ عدت کے زمانہ کو ماہ رجب تک تشبیہ دی گئی ہے۔ حارث بن عباد ثعلبی نے اپنی زبان دراز بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ عورت نے جس شخص کو دوسری شادی کے لئے تیار کیا وہ ایک روز حارث کو مل گیا۔ اس نے یہ بات اُس سے کی مراد یہ تھی کہ عدت کے بعد جب تو اس عورت کے ساتھ رہے گا تو اس کی معاشرت بد سے عجائبات ملاحظہ کرے گا۔ الرَّجَبان: رجب و شعبان کے دو مہینے۔ المُرَجَّب (مفع): خوفناک، معظم۔

۲۔ رَجَبَ ـُ رَجْبًا ہٗ بکلامٍ سیءٍ: پر برے کلام کی تہمت لگانا۔

۳۔ رَجَّبَ النخلةَ: کمزوری کی وجہ سے کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگانا، کھجور کے درخت کے اردگرد کانٹوں کی باڑھ لگانا۔ اسی سے ہے: اَنَا جُذَيْلُهَا المحكك و عُذَيْقُهَا المُرَجَّب: جُذَيْل جذل کی تصغیر بمعنی تنہ کھجور وہ لکڑی جس میں خارش زدہ اونٹ اپنے بدن کو کھجاتا ہے۔ عُذَيْق عذق کی تصغیر بمعنی کھجور اور رجب جس میں پھل کے بوجھ کی وجہ سے ٹیکی وغیرہ لگا دی جائے۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب اس کی رائے یا عقل سے مصیبت دور ہو۔ الرُّجْبَة: کھجور کے درخت کی ٹیکی۔

۴۔ الرُّجْبَة: شکار کرنے کا مچان۔ الرَّوَاجِب واحد رَاجِبَة (ع ا): انگلیوں کی جڑوں کے جوڑ۔ الاَرْجَاب: آنتیں۔

○ رَجَبَ ـُ و رَجِبَ ـَ رَجَبًا من/علی: سے ڈرنا، کا احترام کرنا۔ رَجَب: رجب، قمری سال کا ساتواں مہینہ۔

رجح: ا۔ رَجَحَ ـُ رُجْحَانًا و رُجُوحًا المیزانُ: ترازو کا جھکنا ۔۔۔ الرائُ: رائے کا غالب آنا ۔۔۔ ہٗ: سے زیادہ بوجھل، بھاری بھرکم اور بردبار ہونا ۔۔۔ ہٗ بیدہ: کو ہاتھ میں لے کر اس کے بوجھ کا اندازہ لگانا۔ ۔۔۔ رَجَاحَة: حلیم و بردبار ہونا، بوجھل ہونا۔ رَجَّحَ و اَرْجَحَ ہٗ: کو جھکانا، بوجھل کر کے جھکانا ۔۔۔ لہٗ: کو جھکتا ہوا دینا۔ رَاجَحَ ہٗ: سے جھکنے میں غالب ہونے کے لئے مقابلہ کرنا۔ تَرَجَّحَ الرائُ عنده: کے نزدیک رائے کا غالب ہونا۔ ۔ فی القول: قول میں مائل ہونا۔ الرُّجُح من الجفان: بھرے ہوئے بڑے پیالے۔ المُتَرَاجِحَة او المتباینة العددیة (ع ج): دو مختلف عددوں کا مجموعہ۔ ۔۔ ذات مجاهیل (ع ج): الجبراء کے دو عددوں کا مجموعہ، جب نامعلوم اعداد کو اس میں موافق عددوں سے بدل دیا جاتا ہے تو متراجحہ صحیح عددوں والی ہو جاتی ہے۔ ان عددوں کو حلول یا جزور المتراجحہ کہا جاتا ہے۔

۲۔ رَجَّحَ ہٗ: کو ہلانا جلانا، جھلانا، لٹکانا۔ عوام اسے اَرْجَحَهُ کہتے ہیں۔ تَرَجَّحَ الشیءُ: ہلنا، جھولنا۔ عوام اسے تَأَرْجَح کہتے ہیں۔ ۔۔۔ ت الأُرْجُوحَةُ بہ: سے جھولے کا جھکنا۔ اِرْتَجَحَ فی الارجوحة: جھولے میں جھولنا۔ ۔۔ ت الابلُ: آہستہ دوڑنے میں اونٹوں کا ہلنا۔ الرُّجُح من الکتائب: لشکر جرار۔ الأُرْجُوحَة جمع اَرَاجِیح و الرُّجَاحَة و الرُّجَّاحَة و المَرْجُوحَة: جھولا۔ الأَرَاجِیح: آہستہ قدم دوڑنے میں اونٹوں کی جنبش یا بان۔

○ رَجَحَ ـُ رُجُوحًا و رُجْحَانًا: جھکنا (ترازو کے پلڑے کا)، زیادہ وزنی ہونا، حاوی ہونا، بڑا ہوا، زیادہ اہم یا زیادہ با اثر ہونا، سب سے اہم، نمایاں یا فائق ہونا ۔۔۔ ہ: سے بڑھ جانا، سے بازی لیجانا، پر سبقت لے جانا ۔۔۔ اَن: بہت اغلب ہونا کہ ...... رجح عنده اَن: اسے یہ انتہائی ممکن لگا کہ ۔۔۔ ہ بیدہ: کو ہاتھ میں تولنا۔ رَجَّحَ ہ علی: کو سے زیادہ وزنی کرنا، کو سے زیادہ اہمیت دینا، کو سے زیادہ وقعت دینا۔ ۔۔۔ ہ: کو زیادہ بھاری یا بوجھل خیال کرنا۔ ۔۔ ہ علی: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا، کے حق میں ہونا، بنسبت دوسری چیز کے، کے سے زیادہ حق میں ہونا ۔۔۔ ہ: کو اغلب، غالب، قرین قیاس، ممکن، قابل قبول، حقیقت سے قریب یا واقعیت سے ملتا جلتا ۔۔۔ اَن: یہ خیال کرنا کہ وہ اغلب، قرین قیاس، ممکن، قابل قبول، یا حقیقت سے قریب ہے۔ تَرَجَّحَ: زیادہ بوجھل ہونا، زیادہ وزنی ہونا، مقدار میں زیادہ ہونا، مقدم یا اہم تر ہونا، آگے پیچھے جھولنا، گھڑی کے لٹکن کی طرح ہلنا، ہلنا جلنا، پنڈولے کی طرح نیچے اوپر حرکت کرنا۔ اِرْتَجَحَ: آگے پیچھے جھولنا، گھڑی کے لٹکن کی طرح ہلنا، ہلنا جلنا، جھولا جھولی کھیلنا، ڈانواڈول کھڑا ہونا یا حرکت کرنا۔ رَجَاحَة: برداشت، صبر، عفو و کرم، نرمی، اطمینان، سکون، دلجمعی۔ رُجْحَان: برتری، فوقیت، تفوق،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بالا دتی ـــــ علی: سے زیادتی، سے زیادہ بھاری ہونا، برابہیت، تفوق، تسلط ۔ لَرَجَح: وزن میں برتر، زیادہ وقیع، زیادہ مقبول، زیادہ قابل قبول، بہتر، زیادہ اغلب، زیادہ ممکن ۔ اَلْأَرْجَح أن: زیادہ اغلب ہے کہ، غالبًا ..... علی الأرجح: غالبًا، بہت اغلب۔
أُرْجَحِیَة: زیادہ ہونا، زیادہ بھاری ہونا، وزنی ہونا، اہم ہونا، قوی تر ہونا، فوقیت، غلبہ، پھیلاؤ، اشاعت۔
أُرْجُوحَة جمع أَرَاجِیح: بچوں کا تختہ کا جھولا، پنڈولا، جھولا، پالنا، گہوارہ ۔ مَرَاجِح: وزن میں برتر، زیادہ وقیع، زیادہ حق دار، زیادہ قابل قبول، پسندیدہ، بہتر، اغلب، ممکن ۔ مَرْجُوحَة جمع مَرَاجِیح: جھولا، بچوں کا تختہ کا جھولا، پنڈولا ۔ مُرَجَّح: زیادہ وقیع، زیادہ اثر و اقتدار رکھنے والا، زیادہ اہم، زیادہ وزنی، قوی تر، بالاتر، غالب، اغلب، قرین قیاس، ممکن، قابل قبول، حقیقت سے قریب، بہت ممکن، غالبًا، پسندیدہ، سہانا، بظاہر موزوں۔

رجد: رَجَدَ ـُ رَجْدًا: غلہ کی بالیوں کو کھلیان لے جانا۔ صفت رَجَّاد ۔ رُجِدَ رَجْدًا و رُجِّدَ و أُرْجِدَ: کانپنا۔

○ رَجْرَجَ و تَرَجْرَجَ: کانپنا، آہستہ ہلنا، پر ہلکی کپکپی طاری ہونا، ہلنا جلنا، جھولنا ۔ رَجْرَج: ہیجان زدہ، بے چین، مضطرب، کانپتا ہوا، گھبرایا ہوا، کپکپاتا ہوا، ہلتا ہوا، جھولتا ہوا ۔ الرَّجْرَاج: سمندر۔

رجز: ا رَجَزَ ـُ رَجْزًا: رجز پڑھنا ۔ صفت رَاجِز و رَجَّاز و رَجَّازَة ـــــ بہ: کے سامنے رجز پڑھنا ۔ رَجَّزَهُ: کے سامنے رجز پڑھنا ۔ رَاجَزَ صَاحِبَهُ: سے رجز پڑھنے میں مقابلہ کرنا ۔ تَرَجَّزَ: رجز پڑھنا ۔ ـ الرعدُ: گرج کی آواز مسلسل سنائی دینا ۔ السحابُ: بادل کا پانی کی زیادتی سے دھیرے دھیرے حرکت کرنا ۔ اِرْتَجَزَ: رجز پڑھنا ۔ تَرَاجَزَ القومُ: ایک دوسرے کے مقابلہ میں رجز کے اشعار کہنا ـــــ بفلانٍ: کے بارے میں رجز نظم کرنا، کہنا ـــــ الرَّجَزَ فی القتال: لڑائی میں رجز پڑھنا ـــــ الرعدُ: گرج کی آواز مسلسل سنائی دینا ۔ الرَّجَز: شعر کے بحروں میں سے ایک بحر جس کا وزن مستفعلن سات بار ہے، ایک بیماری جس میں اونٹوں کے سرین کانپتے ہیں۔
الأَرْجَز: سرین کانپنے کی بیماری والا ۔ الرِّجَازَة: وہ برتن یا کپڑا جس میں پتھر وغیرہ بھر کر بوجھ کو برابر کرنے کے لئے ایک طرف لٹکا دیتے ہیں، عورتوں کی سواری کے لئے اونٹ کی پالکی، وہ چیز جس سے ہودج سجایا جاتا ہے ۔ الأُرْجُوزَة جمع أَرَاجِیز: بحر رجز کا

قصیدہ۔
۲ الرُّجْز: گندگی، دکھ، بتوں کی پرستش ۔ الرِّجز: گندگی، گناہ۔ نیز بمعنی الرُّجْز۔
○ اِرْتَجَزَ: بحر رجز میں اشعار کہنا، لکھنا یا اچھے انداز سے پڑھنا، (سمندر کا) گرجنا، طوفانی ہونا، طوفان خیز ہونا، سمندر میں موجیں اٹھنا، سمندر کا متلاطم ہونا ۔ رَجَز: شعروں کے ایک بحر کا نام ۔ اِرْتِجَاز: بحر رجز کے اشعار، چھوٹا گیت ۔ أُرْجُوزَة جمع أَرَاجِیز: بحر رجز کی نظم۔
○ أَرَجُوز: بچوں کے لئے پتلیوں کے مزاحیہ تماشا میں ایک کردار جس کا نام Punch ہے جو اپنی بیوی جوڈی سے لڑائی کرتا ہے اس کھیل کا نام Punch and Judy show ہے۔

رجس: ا رَجَسَ ـُ رَجْسًا البعیرُ: اونٹ کا آواز کرنا ۔ ـ ت السماءُ: بادل کا گرجنا ۔ اِرْتَجَسَ ت السماء: بادل کا گرجنا ـــــ البناءُ: عمارت کے ہلنے سے آواز سنائی دینا ۔ الرِّجس: خفیف حرکت ۔ الرَّجَّاس: سمندر ۔ کہا جاتا ہے بعیرٌ او سحابٌ رَجَّاسٌ: تیز آواز والا اونٹ یا بادل ۔ بعیرٌ رَجُوسٌ و مِرْجَسٌ: تیز آواز والا اونٹ۔
۲ رَجَسَ ـُ رَجْسًا فلانًا عن الامر: کو کسی کام سے روکنا۔
۳ رَجَسَ ـُ رَجْسًا و ارْتَجَسَ: آلہ سے پانی کی گہرائی ناپنا ۔ المِرْجَاس: پتھر وغیرہ جو رسی سے باندھ کر پانی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پانی کی گہرائی کا پتہ چلے۔ پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ۔
۴ رَجِسَ ـَ و رَجُسَ ـُ رَجَاسَةً: قبیح کام کرنا ۔ صفت رَجِس ۔ الرِّجس: قبیح کام، قبیح کام پر سزا، شیطانی وسوسہ ـــــ والرَّجَس والرِّجس: گندگی، پلیدگی۔
○ رَجِسَ ـَ رَجَسًا و رَجُسَ ـُ رَجَاسَةً: گندہ ہونا، غلیظ ہونا، کوئی شرمناک کام کرنا، کوئی گندہ یا شرمناک رسوائی کا موجب کام کرنا ۔ رِجْس جمع أَرْجَاس: گندگی، غلاظت، گندی چیز یا کام، ظلم، بیدردی، سفاکی، بدذاتی ۔ رَجَس جمع أَرْجَاس: گندگی، غلاظت ۔ رَجِس: گندا، غلیظ ۔ رَجَاسَة: گندگی، غلاظت، خشکی، زبوں حالی ۔ رَجَّاس: گرجنے والا، متلاطم (سمندر)، گرجدار، کڑک دار۔

رجع: ا رَجَعَ ـِ رُجُوعًا و مَرْجِعًا و مَرْجِعَةً و رُجْعَى و رُجْعَانًا: جانا، لوٹنا ـــــ الشیءَ عنه او الیه: کو سے ہٹانا، کو کی طرف لوٹانا۔ کہا جاتا ہے: رَجَعَ عَوْدُهُ علی بَدْئِهِ: وہ جس راستے سے آیا تھا اسی

پر واپس لوٹ گیا ـــــ رُجُوعًا و رِجَاعًا الطیرُ: پرندوں کا گرم خطوں سے گذر کر سرد مقامات میں پہنچنا ۔ رَجَّعَ فی صوته: حلق میں آواز گھمانا ـــــ و تَرَجَّعَ فی المصیبة: مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ـــــ ت الدابّةُ: جانور کا قدم رکھنا ۔ رَاجَعَهُ فی الامر: کسی معاملہ میں کسی شخص کی طرف رجوع کرنا ـــــ هُ الکلامَ: سے گفتگو دہرانا۔ ـــــ الرجلُ: اپنی پہلی نیک یا بدعادت کی طرف لوٹنا۔ أَرْجَعَهُ: کو رد کرنا، پھیرنا ـــــ الرجلُ فی المصیبةِ: مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ـــــ ت الدابّةُ: جانور کا لید کرنا، گوبر کرنا ـــــ ت الناقةُ: اونٹنی کا لاغر ہونا، لاغری کے بعد فربہ ہونا۔ تَرَجَّعَ فی صدری کذا: میرے سینے میں ایسی گونج ہوئی ۔ تَرَاجَعَ القومُ: لوگوں کا اپنی اپنی جگہوں پر واپس آنا ـــــ القومُ الکلامَ بینهم: قوم کا آپس کی گفتگو میں الٹ پھیر کرنا ۔ اِرْتَجَعَ إلیَّ الشیءَ: اس نے وہ چیز مجھے واپس کردی ـــــ هُ: کو واپس کرنا ـــــ ت المرأةُ جلبابها: عورت کا اپنی چادر کو اپنے چہرہ پر دوبارہ ڈال لینا ـــــ علی الغریم: قرضدار سے مطالبہ کرنا ۔ اِسْتَرْجَعَ منه الشیءَ: سے چیز کی واپسی چاہنا، سے دی ہوئی چیز واپس لینا ـــــ فی المصیبة: مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ـــــ الحمامُ فی غنائه: کبوتری کا گنگنانا ۔ الرَّجْع جمع رِجَاع و رُجْعَان و رِجْعَان: خط کا جواب، بارش کے بعد بارش، موسم بہار کی سبزی، گوبر، تالاب ـــــ من الارض: زمین کا وہ حصہ جس میں سیلاب دور تک پھیل گیا ہو ۔ رَجْعُ الصدَی: آواز بازگشت ۔ الراجع جمع رَوَاجِع: شوہر کے مرنے پر اپنے میکے میں جانے والی عورت ۔ الرُّجْعَة والرُّجْعَی و الرُّجْعَان و الرَّجُوعَة: خط کا جواب ۔ الرَّجْعَة: واپسی ۔ الرِّجْعة: واپسی کی قسم، اونٹوں کے ساز و سامان جو منڈی سے لوٹے ہوں، جنت ۔ المَرْجِع: واپسی کی جگہ ۔ (ک): دوسرے جسم سے آکسیجن لینے والا جسم اور بعض شرائط پائی جانے پر اس آکسیجن سے متحد ہونا ۔ الرَّجِیع من الکلام جمع رُجُع: واپس کیا ہوا کلام، موسم بہار کی سبزی، اونٹ کی جگالی، گوبر، لید، پسینہ، ہر واپس کی ہوئی شے، تالاب، دوبارہ گرم کیا ہوا ٹھنڈا کھانا ۔ بعیرٌ رجیعٌ: سفر سے تھکا ماندہ اونٹ ۔ دابّةٌ رجیعُ أسفارٍ: چوپایہ جو بار ہا سفر سے واپس آیا ہو ۔ ناقةٌ رَجِیعَة جمع رَجَائِع: سفر سے تھکی ہوئی اونٹنی ۔ المَرْجُوع

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

والمَرْجُوعَة جمع مَرَاجِيع: خط کا جواب، گودے کا نشان جو بار بار تازہ کیا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے: لیس لهذا البیع مرجوع: اس بیع میں واپسی نہیں ہوگی۔ المُرَاجِع من النساء: وہ عورت جو خاوند کے مرنے پر اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی ہو۔

۲۔ رَجَعَ - رَجْعًا و مَرْجِعًا و مَرْجَعًا الکلامُ فیہ: کلام کا کسی کو فائدہ پہنچانا ـــــ العَلَفُ فی الدابة: چارہ کا جانور میں فائدہ دکھانا، پر خوشگوار اثر ڈالنا۔ اَرْجَعَ اللّٰهُ بیعتہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی سوداگری کو فائدہ مند بنانا۔ تَرَجَّعَ النَّاقَةَ: اونٹنی کو دوسری اونٹنی کی قیمت سے خریدنا۔ اِرْتَجَعَ النَّاقَة: اونٹنی کو دوسری اونٹنی کی قیمت سے خریدنا۔ کہا جاتا ہے باع خیلَہُ فارتجع منها رِجْعَةً صالحة: اس نے اپنے گھوڑے بیچے اور ان کی قیمت کو منافع کے کاموں میں لگایا۔ الرَّجْع (مص) جمع رِجَاع و رُجْعَان و رِجْعان: نفع۔ کہا جاتا ہے ماھو الاسَجْعٌ لیس فیہ رَجْعٌ: یہ محض سجع ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

۳۔ الرَّجْع من الکتف: مونڈھے کا نچلا حصہ۔ کہا جاتا ہے کواہ عند رجع کتفہ: اس نے اس کے کندھے کے نچلے حصہ کے پاس اُسے داغا۔ الرَّجِیع جمع رُجُع: بوسیدہ کپڑا۔ المَرْجِع: کندھے کا نچلا حصہ۔

○ رَجَعَ ـ رُجُوعًا: واپس آنا، دوبارہ آنا، لوٹنا، پھر ہونا، بار بار ہونا ـــــ إلی: سے رجوع کرنا، کے پاس لوٹنا، کچھ دوبارہ شروع کرنا، پھر شروع کرنا، کا سہارا لینا، پر اکتفا کرنا، کی طرف واپس آنا، کی طرف رجوع کرنا، کو کتاب میں دیکھنا، کے معنے (لغات) میں دیکھنا، (کتاب) سے رجوع کرنا، کو (کتاب) میں دیکھنا۔ إلی ان: اس حقیقت سے نسبت پذیر ہونا کہ۔ ـــــ إلی: سے مشتق ہونا، سے نکلنا، کا منبع ہونا، کی اصل ہونا۔ رجع بہ إلی: کو کچھ بنانا، پر انحصار کرنا، کی وجہ یا سبب سے ہونا، کے باعث ہونا، کا (حق) ہونا ـــ ل: کے دائرہ اختیار میں داخل ہونا یا آنا ـــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا ـــــ عن/فی: اپنے قول سے ہٹنا، (فیصلہ) منسوخ کرنا ـــــ علی: کا مخالف ہو جانا۔ رجع بہ علی فلان: سے کی واپسی کا دعوی کرنا ـــ ب علی: سے کا مطالبہ کرنا، کا دعوی کرنا ـــ ب: کا لازمی (نتیجہ) ہونا، کا نتیجہ ہونا ـــــ فی: پر اچھا اثر ڈالنا، کے ساتھ کامیاب ہونا۔ رَجَعَ علی عَقِبِہ جمع رجعوا علی اعقابھم: جس راستے آئے اسی پر واپس چلا جانا۔ رجع إلی الصحة: صحت یاب ہونا۔ رجع إلی صَوَابِہ: کے حواس ٹھکانے لگنا۔ رجع إلی نفسہ: اپنا جائزہ لینا۔ یرجع ذلك إلی ان: یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ۔ یرجع السببُ إلی: وجہ میں ملنا۔ رجعت بہ الذاکرة إلی: اس نے یاد کیا، اسے یاد آیا۔ رجع فی کلامِہ: اپنے قول سے پھر جانا۔ رَجَّعَ: واپس لانا، لوٹانا، واپس کرنا، واپس بھیجنا ـــــ ہ عن: کو سے دور کرنا ـــــ: مرتعش سر میں گانا یا گنگنانا ـــ ہ: کو دہرانا، کی گونج پیدا کرنا۔ رجع صداہ: کی گونج لوٹانا، کو دہرانا۔ رَاجَعَ ہ/ہ: کے پاس واپس آنا ـــ ہ: کی طرف واپس آنا، کا دوبارہ مطالعہ کرنا، کو دہرانا، کو بار بار کرنا، بار بار دہرانا، کے پاس واپس لوٹنا، اطلاع کے لئے سے درخواست کرنا، کسی کتاب سے رجوع کرنا، کو (کتاب) میں دیکھنا ـــــ ہ فی: سے کسی معاملہ میں رجوع کرنا، (مشورہ وغیرہ کے لئے)۔ ـــــ ہ: سے مشورہ کرنا ـــ ہ/ ہ: کا ذکر کرنا، کی طرف اشارہ کرنا، سے متعلق ہونا ـــــ ہ: کی پڑتال کرنا، تصدیق کرنا، کا ناقدانہ جائزہ لینا ـــ ہ: (حساب کتاب) کی پڑتال کرنا، آڈٹ کرنا۔ راجعہ عقلُہُ: کے حواس ٹھکانے لگنا۔ راجَعَ نفسَہُ: مصمم ارادہ کرنے کی کوشش کرنا، پورے معاملہ پر دوبارہ غور کرنا، معاملہ پر نظر ثانی کرنا، معاملہ کو پھر سے سوچنا۔ یُرَاجَعُ: دیکھئے۔ اَرْجَعَ: لوٹانا، واپس کرنا ـــ ہ إلی: کو کی طرف موڑنا ـــ ہ: کو واپسی پر مجبور کرنا ـــــ ہ إلی: کو سے منسوب کرنا۔ تَرَجَّعَ: لوٹنا، دوبارہ آنا، گونجنا، واپس مرتعش ہونا۔ تَرَاجَعَ: ایک دوسرے کی طرف مڑنا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، لوٹنا، ہٹنا، کم ہو جانا، بگڑنا، خراب ہونا، معیار سے گرنا ـــــ عن: سے بتدریج انحراف کرنا، تجاوز کرنا۔ ـ: پیچھے رہ جانا، اپنا ذہن تبدیل کرنا۔ استرجع ہ: کی واپسی کا مطالبہ کرنا، کی واپسی کی درخواست کرنا، کو واپس لینا، کو دوبارہ پانا، کو لے لینا ـــ وعدا: وعدہ واپس لینا ـــ ہ: (فیصلہ وغیرہ) منسوخ کرنا، مصیبت میں انا للّٰہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اِسْتَرْجَعَہُ إلی حَافِظَتِہ: کو یاد کرنا۔ رَجْع: واپس آنا، واپسی۔ رجعُ الصوت و رجع الصَّدَی: گونج، صدائے بازگشت۔ لَرَجع البصر: پلک جھپکتے میں، ابھی۔ رَجْعِیّ: رجعت پسند، پچھلے زمانہ سے نافذ ہونے والا، ماضی میں عمل کرنے والا، قابل تردید، قابل منسوخی۔ بِاَثرٍ رَجْعِیّ: ماضی سے نفاذ کی قوت کے ساتھ۔ رَجْعِیَّة: رجعت پسندی۔ رَجْعَة: واپسی، بار بار ہونا، اعادہ، مراجعت، تنسیخ، استرداد، منسوخی، رسید، فرد حساب۔ رَجْعَة و رِجْعَة: طلاق کے بعد بیوی کی طرف واپسی، اپنی مطلقہ سے دوبارہ نکاح۔ رُجْعَی: قدامت پسندی، رجعت پسندی۔ رُجُوع: واپسی، مراجعت بازیابی، اصلاح، درستی، منسوخی، باز رسی، بحالی، باز دہی ـ إلی: کی طرف واپسی، سے رجوع، پچھلی (چھوٹی) نوکری پر واپس آنا، کا قابل سراغ ہونا، جو پتہ لگائے جانے کے قابل ہو ـــ عن: کا استرداد، کی تنسیخ، سے پھرنا، کو واپس لینا، سے استعفی، دستبرداری۔ بِرُجُوعِ البَرِید: بواپسی ڈاک۔ رَجِیع: بول و براز، پاخانہ پیشاب، فضلہ۔ مَرْجِع جمع مَرَاجِع: واپسی، سند، حاکم، حکام، ارباب اختیار، عہدے دار جس سے رجوع یا اپیل کی جائے، جائے پناہ، کمین گاہ، مرجع، رجوع، حاکم مجاز، صاحب اختیار، ذمہ دار ایجنسی، منبع، سرچشمہ، ماخذ، مصدر، بنیاد (خصوصاً سائنسی)، معتبر یا مستند حوالے کا کام، حوالہ، منبع جس کی طرف کوئی چیز واپس ہو یا جس کی طرف منسوب کی جا سکے، نقطہ آغاز، اصل، رجوع۔ مرجعُ النظر: دائرہ اختیار، سماعت کے اختیار رکھنے والا۔ المرجع الیہ: جس سے رجوع کیا جائے۔ المرجع فی ذلك إلیَّ: اس ذریعے سے میں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کان مرجع هذا الشیء إلی: یہ کی وجہ سے تھا، سے منسوب کیا جا سکتا تھا۔ الیھم مرجع الفضل: خوبی ان کی وجہ سے ہے۔ مَرْجُوِیة: سند۔ مُرَاجَعَة: بار بار دہرانا، دہرانا، معائنہ، مطالعہ، جائزہ، بغور مشاہدہ، امتحان، پڑتال، تفتیش، حوالہ کے کام کی طرف رجوع کرنا، درخواست، مشورہ یا ہدایت کی درخواست، کسی شخص سے مشورہ، تصدیق، توثیق، جانچ پڑتال، دوبارہ امتحان، آڈٹ۔ (مراجعة الحساب: آڈٹ) نظر ثانی (مسودہ کی)، تصحیح۔ اِرْجَاع: واپسی، بحالی، رقم کی واپسی، باز ادائی ـــــ إلی: سے نسبت، انتساب، کی حالت میں لانا۔ تَرَاجُع: پسپائی، ذہن کی تبدیلی، قدامت پسندی، رجعت پسندی۔ اِرْتِجَاع: قدیم شکل یا نظام کی طرف واپسی، قدامت پسندی، رجعت پسندی۔ اِرْتِجَاعِی: رجعت پسند، قدامت پسند۔ اِسْتِرْجَاع: بازیابی، بازیافت، درستی، اصلاح، تلافی، منسوخی، دست برداری، استرداد، تنسیخ۔ رَاجِع: واپس ہونے والا ـــ إلی: کی وجہ سے، سے منسوب، واجب طور پے کسی شخص کا ـــــ ل: کے تابع، پر منحصر۔ الحُمَّی الرَّاجِعَة: عود کرآنے والا بخار۔ مُرَاجِع: پڑتال کنندہ، تصدیق کنندہ،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ممتحن، نظر ثانی کرنے والا۔ المُراجِعُ المحسابات: آڈیٹر، کمپٹرولر، ناظر حسابات۔

رجف: رَجَفَ ـُ رَجْفًا و رَجَفَانًا و رُجُوفًا و رَجِیفًا ہُ: کو زور سے حرکت دینا۔ الرجلُ: سخت بے چین ہونا، کسی خوف کی بنا پر بے کل ہونا۔ ـــ تِ الارضُ: زمین پر زلزلہ آنا۔ ـــ القومُ: قوم کا جنگ کے لئے تیار ہونا۔ ـــ الرعدُ: رعد کا گڑگڑانا۔ ـــ ت الاسنانُ: دانتوں کا گرنا۔ اَرْجَفَ: لوگوں کو بھڑکانے کے لئے بری خبریں اڑانا۔ ـــ القومُ بالشیء و فیہ: میں گھسنا۔ ـــ ت الریحُ الشجرَ: ہوا کا درختوں کو ہلانا۔ و اُرْجِفَت الارضُ: زمین میں زلزلہ آنا، بھونچال آنا۔ تَرَجَّفَ و اِرْتَجَفَ: سخت کانپنا و بے چین ہونا۔ اِسْتَرْجَفَ رأسَهُ: سر کو ہلانا۔ کہا جاتا ہے: خرجوا یسترجفون الارضَ نجدةً: وہ زمین میں ظلم اور دنگا فساد برپا کرتے ہوئے نکلے۔ الرَّجْفَة: اسم مرة، زلزلہ، بھونچال۔ المَراجِف (طب): جاڑے سے آنے والا بخار۔ الراجفة: قیامت کے دن صور کی پہلی پھونک۔ الرَّجّاف: بہت کانپنے اور بے چین ہونے والا، سمندر، قیامت اور حشر کا دن۔ المُتَرَجَّاف: بے چینی۔ المِرْجَفَة: زلزلہ پیما، زلزلہ نگار (Seismograph)۔ الأراجِیف: بری بناوٹی جھوٹی خبریں۔ کہتے ہیں اذا وقعت المخاویف، کثرت الاراجیفُ: خوف کے وقت بری اور جھوٹی خبریں زیادہ اڑتی ہیں۔

○ رَجَفَ ـُ رَجْفًا و رَجَفَانًا: ہلنا، کانپنا، کپکپانا، کپکپی لگنا، لرزہ براندام ہونا، رونگٹے کھڑے ہونا۔ ـــ ہ: کو بے چین کرنا، مضطرب کرنا، جھنجھوڑ دینا، متزلزل کرنا، کپکپا دینا۔ اَرْجَفَ ہ: کو لرزہ براندام کرنا، لرزانا۔ ـــ ہ: کو زور زور سے ہلانا، جھنجھوڑنا، ہلانا جلانا۔ ـــ ہ: جھوٹی باتیں اور خبریں پھیلانا۔ اَرْجَفَ بافتراءاتٍ: تہمتیں پھیلانا۔ اِرْتَجَفَ: تھرانا، کانپنا، لرزنا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، ہلنا۔ رَجْفَة: لرزہ، کپکپی، تھرتھراہٹ، زلزلہ، خوف، گھبراہٹ، ہیجان، فالج کا رعشہ۔ رَجّاف: کانپنے والا، لرزنے والا، ہچکولے کھانے والا، جھٹکے کھانے والا، متحرک، ہلنے والا، زور زور سے ہلایا ہوا، جھنجھوڑا ہوا۔ اِرْجاف جمع اراجیف: جھوٹی افواہ، جھوٹی اور پریشان کن بات۔

رجل: ۱ رَجَلَ ـِ رَجْلًا الفصیلَ: اونٹ کے بچہ کو ماں کا دودھ پینے کے لئے آزاد چھوڑ دینا۔ ـــ الشاةَ: بکری کی ٹانگیں باندھنا۔ ـــ ہُ: کی ٹانگ پر مارنا۔ رَجِلَ ـَ رَجَلًا: پیدل چلنا، ٹانگ میں کوئی تکلیف لاحق ہونا۔ ـــ الفصیلُ: اونٹ کے بچہ کا ماں کا دودھ پینے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جانا۔ ـــ ت الدابةُ: جانور کا ایک ٹانگ میں سفیدی والا ہونا۔ اَرْجَلَ ہُ: کو پیدل چلانا۔ ـــ الفصیلَ: اونٹ کے بچہ کو ماں کا دودھ پینے کے لئے آزاد چھوڑ دینا۔ تَرَجَّلَ: سواری سے اتر کر پیدل چلنا۔ ـــ البئرَ و فی البئرِ: بغیر رسی وغیرہ لٹکائے ہوئے کنویں میں اترنا۔ ـــ الزَّنْدَ: چقماق کی اوپر کی لکڑی کو پاؤں کے نیچے رکھنا۔ اِرْتَجَلَ الشاةَ: بکری کی ٹانگیں باندھنا۔ ـــ ہُ: کو پاؤں سے پکڑنا۔ ـــ الزَّنْدَ: چقماق کی اوپر کی لکڑی کو پاؤں کے نیچے رکھنا۔ ـــ الرجلُ: پیدل چلنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا باری باری تیز اور نرم چال سے چلنا۔ الرَّجِل: پیدل چلنے والا۔ الرِّجْل جمع اَرْجُل: قدم (کہا جاتا ہے هو یُقَدِّمُ رِجلاً و یُؤَخِّرُ اُخری: کسی معاملہ میں متردد ہونا، پس و پیش کرنا)، پائجامہ، آدمی کا پاخانہ، پیش رفت۔ رِجْلُ البحرِ: کھاڑی۔ رِجلا السهمِ: تیر کے ہر دو طرف۔ کثیرةُ الأرجُلِ (ح): جوڑدار جانوروں کی ایک قسم جیسے ہزار پا (کنکھجورا) بعض زہریلے ہوتے ہیں۔ الرَّجُل جمع رِجال و رَجْلَة و رَجَلَة و اَراجِل و رِجالات: پیدل چلنے والا۔ الرَّاجِل: پیدل چلنے والا۔ الراجِل (فا) جمع رَجْل و رَجّالَة و رُجّال و رِجال و رُجالی و رَجالی و الرجلان: پیدل چلنے والا۔ کہا جاتا ہے جاءت الخیالةُ و الرَّجّالةُ: سوار اور پیدل آئے۔ اَغار علیهم بخیلِه و رَجْلِه: اس نے ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے لوٹ ڈالی۔ رَجُلٌ راجِلٌ: پیدل چلنے والا مرد۔ الراجِلة: چلنے کی طاقت، جانور کے ایک پاؤں کی سفیدی۔ الرِّجْلة جمع رِجَل (ن): خرفہ کا ساگ، خرفہ کے ساگ کے اگنے کی جگہ۔ الرَّجیل جمع اَرْجِلَة و اَراجِل و اَراجیل: پیدل چلنے والا۔ ـــ جمع رَجْلی و رُجالی و رَجالی: زیادہ چلنے پر قدرت رکھنے والا۔ مکانٌ رَجیلٌ: وہ جگہ جس کے دونوں طرف دور دور ہوں۔ فرسٌ رجیلٌ: رام، سدھایا ہوا گھوڑا جس کو پسینہ نہ آئے۔ الرَّجْلان جمع رُجالی و رَجالی و رَجْلَی مونث رَجْلَی جمع رِجال و رَجالی: پیدل چلنے والا۔ الأرجَل من الدواب: ایک ٹانگ میں سفیدی رکھنے والا جانور۔ رَجُلٌ اَرْجَل مونث رَجْلاء جمع رُجْل: بڑے پاؤں والا آدمی۔ التَّرجیل: جانور کی ایک ٹانگ میں سفیدی

الأراجیل: شکاری لوگ۔ المرجلیّون واحد رَجْلیّ: وہ آدمی جو ٹانگوں پر دوڑتے تو گھوڑے ان تک نہ پہنچ سکتے تھے، یہ آدمی سُلَیك بن سُلَیکَة الغطفانیّ والمنتشر بن وهب الباهلیّ و اوفی بن مطر المازنی تھے۔

۲ رَجِلَ ـَ رَجَلًا الشعرُ: بالوں کا کچھ گھنگھریالے ہونا۔ رَجَّلَ الشعرَ: بالوں میں کنگھی کرنا۔ شعرٌ رَجْلٌ: کم گھنگریالے بال۔ الرَّجَل من الشعر جمع اَرْجال و رَجالی: کم گھنگریالے بال۔ الرَّجِل من الشعر: کم گھنگریالے بال۔ المُرْجَل جمع مَراجِل: کنگھی۔ المُرَجَّل من الشعر: کنگھی کئے ہوئے بال۔

۳ رَجَّلَ ہُ: کو مضبوط کرنا۔ تَرَجَّلَتِ المرأةُ: عورت کا مرد کی طرح ہونا۔ ـــ ت الشمسُ: سورج کا اونچا ہونا۔ اِرْتَجَلَ النهارُ: دن چڑھنا۔ الرَّجُل: مرد۔ الرَّجُل: بہت سونے والا آدمی۔ الرَّجُل جمع رِجال و رَجْلة و رَجَلة و اَراجِل و رِجالات: مرد۔ کہا جاتا ہے فلان رَجُلٌ فی الرجال: فلاں شخص ان میں کامل مردانگی والا ہے۔ الرَّجُلة: عورت۔ الرُّجُلة: مردانگی۔ رَجُلٌ رَجیلٌ: سخت مضبوط آدمی۔ المَرْجُولة و الرُّجولیّة و الرَّجولیّة و الرُّجُلیّة: مردانگی، مردی۔ الأرجَل: سخت تر۔ کہا جاتا ہے هو اَرْجَلُهم: وہ مردانگی میں ان میں سے سب سے زیادہ کامل ہے۔ المُرَجَّل من النسیج وغیرہ: کپڑا وغیرہ جس پر آدمیوں کی تصویریں منقش ہوں۔

۴ اَرْجَلَ ہُ: کو مہلت دینا۔

۵ اِرْتَجَلَ: دیگچی میں پکانا۔ المِرْجَل جمع مَراجِل: دیگچی، بوائلر (انجن وغیرہ کا)۔

۶ اِرْتَجَلَ الکلامَ: فی البدیہہ کہنا۔ کہا جاتا ہے اِرْتَجَلَ الشعرَ: اس نے فی البدیہہ شعر کہے۔ ـــ برأیہ: اپنی رائے میں منفرد و تنہا ہونا۔ کہا جاتا ہے اِرْتَجِلْ رَحْلَكَ: اپنی شان کو لازم پکڑ۔ کلامٌ رَجیلٌ: فی البدیہہ کلام۔

۷ الرِّجْل جمع اَرْجال: کسی چیز کا حصہ، ٹڈی دل (کہا جاتا ہے جاءت رِجْلُ دِفاعٍ: بہت بڑا لشکر آیا)، عہد، زمانہ۔ (کہتے ہیں کان ذلک فی رِجْلِ فلانٍ: یہ اس کے عہد اور زندگی میں تھا)۔ خالی سفید یا سادہ کاغذ، فقیری محتاجی، خوف (آپ کہتے ہیں انا من امری علی رِجْلٍ: میں اپنے امر کے فوت ہونے سے خائف ہوں) رِجْلُ الغراب و رِجلُ الجراد: دو قسم کی نباتات۔ رِجلُ الذئب (ن): ایک قسم کی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نباتات۔رِجلُ الجبَّار ورِجلُ الجوزاء و رجلُ قنطورس (فلك): ستاروں کے نام۔المُرَجَّل: شراب سے بھری ہوئی مشک۔الشراجیل (ن): اجوائن خراسانی۔

○ رَجِلَ۔رَجَلاً: پیدل چلنا، چلنا۔رَجَّلَ ہ: بالوں میں کنگھی کرنا، بالوں کو لٹکانا، کھلا چھوڑنا۔تَرَجَّلَ: پیدل چلنا، چلنا۔۔ من/عن ۔۔ سے نیچے اترنا، اترنا۔ ۔۔ مردوں کے سے اخلاق و عادات اختیار کرنا، مرد جیسا رویہ اختیار کرنا۔ترَجَّلَ فی طریقه: تمام راستہ چلنا۔اِرْتجَلَ ہ: فی البدیہ تقریر کرنا، شعر کہنا، برجستہ تقریر کرنا۔اِسْتَرْجَلَ: مرد بن جانا، مرد کی عمر کو پہنچنا، بڑا ہو جانا، مرد کی طرح کام کرنا، مردانہ اخلاق و عادات یا خوبیاں ظاہر کرنا۔رِجْل (مونث) جمع اَرْجُل: پاؤں، ٹانگ۔رِجْل جمع اَرْجال: دل، جھنڈ (خصوصاً ٹڈیوں کا)، لوبیا، باقلہ، خرفہ۔رَجِل: پیدل، پیادہ، پاپیادہ، پیادہ رو، پیدل چلنے والا، چلنے والا۔رَجُل جمع رِجال: مرد جمع رِجالات: بڑے اور اہم لوگ، سرکردہ شخصیات، ممتاز مرد۔رِجالُ الدَّولَة: مدبرین، سیاستدان، کاروبار حکومت کے ماہرین، اصحاب تدبیر۔رِجالُ السَّند: جاسوس، مخبر، خبر دینے والے، خبر رساں، سرچشمہ ہائے معلومات۔رِجالِيّ: مردانہ، مردوں کا۔رَجُولَة: مردانگی، جوانمردی، جنس مذکر، مردی، قوت باہ، رجولیت، مردی، آدمیت، بہادری۔رَجُولِيَة: بمعنی رَجُولَة۔مِرْجَل جمع مَرَاجِل: ہانڈی، دیگچی، پتیلا، کڑھاؤ، دیگ، کارخانوں یا انجنوں کا بائلر۔اِرْتِجَال: وہیں بنا دینا، برجستگی، برمحل کلام، برجستہ نظم، بروقت شعر کہنا، فی البدیہ موزوں کرنا، برجستہ کہنا، برمحل، برجستہ، فی البدیہ یا بلا کسی تیاری کے تقریر۔اِرْتِجَالِي: برمحل، فی البدیہ، برجستہ، بروقت، عین وقت پر کیا ہوا، بلا کسی تیاری کے، بے ساختہ، عین وقت پر تیار کیا ہوا۔راجِل جمع رَجْل و رَجَالَة و رُجَّالِ و رُجلان: پیادہ رو، چلنے والا، پاپیادہ، پیدل، پیدل چلنے والا، پیدل چلنے کا شوقین۔مُرْتَجَل: برجستہ، برمحل، فی البدیہ، عین وقت پر کیا ہوا، بلا کسی تیاری کے، بے ساختہ، عین وقت پر ترتیب دیا ہوا، بروقت۔

رجم: ۱۔رَجَمَ۔رَجْماً ہ: کو پتھروں سے مارنا، سنگسار کرنا۔کہا جاتا ہے جَاءَ يَرْجُمُ: وہ دوڑتا ہوا آیا۔راجَمَ مُراجَمَةً ہ: ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔۔ عن قومه: اپنی قوم کی حفاظت کرنا، اپنی قوم کا دفاع کرنا۔ ۔۔ ہ فی الحرب او الکلام او العَدْوِ: سے لڑائی گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔تَرَاجَمُوا: ایک دوسرے پر پتھراؤ کرنا۔الرَّجْم (مص) جمع رُجُوم: جس سے رجم کیا جائے۔الرُّجُم مفرد رُجْمہ: شہاب جو آسمان میں گرتے نظر آتے ہیں۔الرَّجِیم: رجم کیا ہوا۔المِرْجَم من الرجال: مضبوط و سخت آدمی۔فرسٌ مِرْجَمٌ: سخت دوڑنے والا گھوڑا۔المِرْجَام: گوپیا۔۔ من الابل: مضبوط اونٹ۔

۲۔رَجَمَ۔رَجْماً القبرَ: قبر پر کتبہ نصب کرنا، نشان کا پتھر لگانا۔رَجَّمَ القبرَ: قبر پر کتبہ نصب کرنا، نشان کا پتھر لگانا۔اِرْتَجَمَ الشیءُ: تہ بتہ ہونا، ڈھیر لگنا۔الرَّجَم جمع رِجَام: قبر، کنواں، تنور۔الرُّجُم مفرد رُجْم: نشان یا پتھر جو قبر پر نصب کیا جاتا ہے۔الرُّجْمة و الرَّجْمَة جمع رُجَم و رِجَام: قبر پر نصب کیا جانے والا پتھر، قبر، بجوکا بھٹ۔الرُّجْمَة: پتھروں کی بڑی ڈھیری۔الرِّجَام واحد رُجْمَة: کنویں کی من، پہاڑیاں۔الرِّجَامَان: کنویں کا دہانہ جس پر ڈول وغیرہ ڈالنے کے لئے چرخی نصب ہوتی ہے۔

۳۔رَجَمَ۔رَجْماً ہُ: پر لعنت کرنا، کو گالی دینا، دھتکارنا، چھوڑنا۔تَرَاجَمُوا بالکلام: ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرنا۔الرَّجِیم: ملعون۔الشیطان الرجیم: ملعون شیطان۔المَرَاجِم: نازیبا و قبیح باتیں۔کہا جاتا ہے تراموا بالمَرَاجِم: ایک دوسرے سے نازیبا گفتگو کرنا۔

۴۔رَجَمَ۔رَجْماً الرجلُ: گمان سے بات کرنا۔رَجَّمَ: گمان سے بات کرنا۔کہا جاتا ہے رَجَّمَ بالغیب: بے جانے بوجھے بات کرنا۔الرَّجْم: ظنی بات۔کہا جاتا ہے رَجْمًا بالغیب: اٹکل پچو۔صار فلانٌ رَجْمًا: فلاں شخص ایسا بن گیا جس کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہو سکتی۔الرِّجَام واحد رُجْمَة: پتھر وغیرہ جو رسی میں باندھ کر گہرائی معلوم کرنے کے لئے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔حدیثٌ مُرَجَّم: وہ بات جس کی حقیقت نہ کھلے۔

۵۔الرَّجْم جمع رُجُوم: دوست، ہم جلیس و ہمنشین۔

○ رَجَمَ۔رَجْماً ہ: پر پتھر پھینکنا، لعنت کرنا، کو برا کہنا، نفرین کرنا، پر لعنت بھیجنا، کو گالی دینا، پر دشنام طرازی کرنا، کو گالیاں دینا۔رجم بالغیب: ایسی بات کرنا جس کے متعلق اسے کچھ پتہ نہ ہو، قیاس لگانا، اٹکل سے کہنا، اندازے سے کہنا، اندازہ لگانا، قیاس آرائی کرنا، مستقبل کی پیش گوئی یا پیشین گوئی کرنا۔رَجَمَ بالغیب: بمعنی: رَجَمَ بالغیب۔رَجْم: پتھراؤ، پتھر مارنا یا پھینکنا۔جمع رُجُوم: پھینک کر مارنے والا ہتھیار، انداختہ۔رَجْمٌ بالغیب: قیاس، اندازہ، اٹکل، پیشین گوئی۔رُجُوم: شہاب ثاقب، گرے ہوئے شہابی پتھر۔رُجْمَة جمع رُجَم و رِجَام: قبر کا پتھر، کتبہ۔رَجِیم: پتھر مارا ہوا، لعنت کیا ہوا، مردود ٹھہرایا ہوا، بددعا دیا ہوا۔

رجن: ۱۔رَجَنَ۔رُجُوناً بالمکان: کسی جگہ رہنا، اقامت کرنا۔۔ الحیوانُ: جانور کا گھروں سے مانوس و مالوف ہونا۔۔ رَجْناً الدابةَ: جانور کو چارہ پر گھر میں روکے رکھنا۔رَجِنَ۔و رَجُنَ۔رُجُوناً بالمکان: کسی گھر میں رہنا، قیام کرنا، اقامت کرنا۔ ۔۔ الحیوانُ: گھروں سے مانوس ہونا (جانور کا)۔رَجَّنَ الدابّةَ: جانور کو چارہ پر گھر میں روک رکھنا۔اَرْجَنَ الدابّةَ: جانور کو چارے پر گھر میں روک رکھنا۔۔ت الناقةُ: اونٹنی کا گھر میں رہنا۔اِرْتَجَنَ بالمکان: کسی جگہ رہنا۔

۲۔رَجَنَ۔رَجْناً فلاناً: سے شرم و حیا کرنا۔

۳۔اِرْتَجَنَ الزُّبْدُ: مکھن کا پکانے پر صاف نہ ہونا اور بگڑ جانا۔۔ علی القوم امرُهم: قوم پر ان کے کام کا پیچیدہ اور گڑبڑ ہونا۔الرَّجِنَة: جماعت۔المَرْجُونَة: ٹوکری۔کہا جاتا ہے ھم فی مَرْجُونَة: وہ اسی شش و پنج میں ہیں کہ ٹھہریں یا کوچ کر جائیں۔

۴۔الرَّجِین: زہر قاتل۔

رجه: رَجَهَ۔رَجْهًا: ہلنا۔۔ بالشیء: کو دانتوں سے تھامنا۔اَرْجَهَ الامرَ: کام کو ملتوی کرنا۔

رجا: ۱۔رَجَا۔رَجَاءً و رَجْوًا و رَجَاةً و مَرْجَاةً و رَجَاوَةً و رَجَاءَةً: امید رکھنا۔۔ الرجلَ: سے امید باندھنا۔۔ الشیءَ: کی امید کرنا۔رَجَّی و اِرْتَجَی فلاناً: سے امید لگانا۔۔ الشیءَ: کی امید کرنا۔تَرَجَّی الشیءَ: کی امید کرنا، عام طور کہتے ہیں: تَرَجَّاه: سے درخواست کرنا۔الرَّجَاء: چھوہارا، پھل۔الرَّجِیَّة: امید کی چیز۔کہا جاتا ہے لیس لی فی فلان رَجِیَّة: فلاں شخص میں میرے لئے ایسی کوئی چیز نہیں جس کی امید کروں۔التَّرَجِّی: امید و توقع۔

۲۔رَجَا۔رَجَاءً و رَجْوًا و رَجَاةً و مَرْجَاةً و رَجَاوَةً و رَجَاءَةً الشیءَ: سے ڈرنا، خوف کھانا۔اِرْتَجَی الشیءَ: سے ڈرنا، خوف کھانا۔

۳۔رَجِيَ۔رَجًا: کلام سے رکنا۔رُجِيَ علیه: کا کلام بند ہونا۔

۴۔اَرْجَی الصیدَ: شکار کو کچھ بھی نہ پانا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۵۔اَرْجَی الامرَ: کام کوملتوی کرنا۔الْاُرْجِیَّۃ: ملتوی شدہ چیز۔

۶۔الرَّجَا و الرَّجَاء جمع اَرْجَاء: کنارا، طرف۔رَجَوَا البِئرِ: کنویں کے دونوں کنارے۔

○ رَجَا ـ رَجَاءً و رَجَاۃً و مَرْجَاۃً: امید ہونا۔۔ ہ: کی امید ہونا، کی امید کرنا، توقع کرنا، کی دعا کرنا۔۔ ل ہ: کے لئے (کامیابی وغیرہ) کی دعا کرنا۔۔ ہ ہ من/ہ ان: کو سے مانگنا، سے کچھ کرنے کو کہنا۔۔ ہ من: سے کی درخواست کرنا۔۔ من ان: سے درخواست کرنا کہ وہ...... رجاہ فی الحاح: سے التجا کرنا، کی منت سماجت کرنا۔ارجو عدمَ المُوَاخَذَۃِ: مجھے آپ کا عفووکرم طلب کرنا چاہیئے۔تَرَجّی ہ/ہ: کی امید ہونا، کی توقع کرنا، کی امید کرنا۔۔ ہ: سے درخواست کرنا۔اِرْتَجَی ہ/ ہ: کی امید ہونا، کی توقع کرنا۔۔ ہ /ہ: کیا امید کرنا۔۔ ہ: سے ڈرنا، دہشت کھانا۔رَجاً و رَجَاء جمع اَرْجَاء: کنارا، طرف، جانب، رخ، سمت، خطہ، دائرہ جمع اَرْجَاء: (زمین، ملک) کی فراخی، کشادگی، وسعتیں، وسیع علاقے، پورا گردونواح یا علاقہ۔فی اَرْجَاءِ ہ: کے اندرون یا اندر کے آس پاس۔فی اَرْجَاءِ الغرفۃ: تمام کمرہ میں۔فی اَرجاء البلاد: تمام ملک میں۔تجاوبت ارجاءُ الرَّدْھَۃِ بالتصفیق: سارا آڈیٹوریم تالیوں سے گونج اٹھا۔شاسِعُ الْاَرْجَاء اور واسع الْاَرْجَاء: وسیع حدود والا، وسیع الجم۔رَجَاء فی/ب: کی امید، توقع، اصرار والی درخواست، التجا۔علی رجاءِ: کی امید میں، کی امید رکھتے ہوئے۔رجاء العِلم: آپ کی اطلاع کے لئے (یادداشتوں وغیرہ پر)۔رأسُ الرجاء الصالح: Cape of Good Hope۔ایک جگہ کا نام جو سطح سمندر سے بلند ہے۔رَجَاۃ: امید، توقع۔رَجِیَۃ: امید، وہ چیز جس کی امید ہو۔مَرْجَاۃ: امید۔راجٍ: امید کرنے والا، پرامید۔مَرْجُو: جس کی امید ہو، متوقع، درخواست کردہ۔المرجو من فضلك أن: مجھے امید ہے کہ، آپ مہربانی فرماکر...... کریں گے۔المرجو مُرَاعَاۃُ ان: براہ کرم توجہ فرمائیں کہ، دیکھیں کہ، اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی جاری ہے کہ۔رَجِیَ ـ: خاموش ہوجانا، خاموش رہنا۔رُجِیَ علیہ: (ڈر یا حیا سے) خاموش ہونا، کی زبان کو تالا لگ جانا، آواز نکالنے کے ناقابل ہوجانا۔

○ رجیم: (طبی طور پر مقرر کردہ) غذا، (پرہیزی) غذا (فرانسیسی لفظ)۔

رحّ: ۱۔الرُّحُح: بڑے پیالے۔الرَّحَح: کھر کی چوڑائی۔الرَّحَّۃ: کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا سانپ۔الْاَرَحّ مؤنث رَحَّاء جمع رُحّ: چپٹے ٹکوں والا۔

۲۔رَحْرَحَ: مقاصد کی تہ تک نہ پہنچنا۔تَرَحْرَحَتِ الفرسُ: گھوڑے کا پیشاب کرنے کے لئے ٹانگوں کو چیرنا۔الرَّحْرَح و الرَّحْرَاح: کشادہ، چوڑا۔کہا جاتا ہے: عیشٌ رَحْرَحٌ و رَحْرَاحٌ: کشادہ وآسودہ زندگی۔۔ والرحْرَحَان: کشادہ، چوڑا، کم گہرائی والا۔

۳۔رَحْرَحَ الشیءَ عن فلان: چیز کو کسی سے چھپانا۔۔ بالکلام: غیر واضح کلام کرنا۔

رحب: رَحِبَ ـ رَحَبًا و رَحُبَ ـ رُحْبًا و رَحَابَۃً المکانُ: جگہ کا وسیع وفراخ ہونا۔صفت: رَحْب و رَحِیب و رُحاب: کہا جاتا ہے: رَحُبَکُمُ الامرُ: کوئی کام کرسکنا، کے قابل ہونا۔رَحَّبَ المکانَ: جگہ کو کشادہ کرنا۔۔ بہٖ و مَرْحَبَۃً: کا اچھا استقبال کرنا، کو خوش آمدید کہنا۔اَرْحَبَ المکانُ: جگہ کا کشادہ ہونا۔۔ المکانَ: جگہ کو کشادہ کرنا۔کہا جاتا ہے: اَرْحِبْ یا وَلَدُ: بیٹے الگ اور دور رہو۔تَرَاحَبَ: وسیع ہونا، کشادہ ہونا۔الرُّحْب (مص): چوڑائی، کشادگی، فراخی، پھیلاؤ۔کہا جاتا ہے: رُحْبًا بکم: تم نے فراخی کو پایا۔الرَّحْب: وسیع، کشادہ، فراخ۔کہا جاتا ہے: مکانٌ رَحْبٌ و ارضٌ رَحْبَۃٌ: فراخ جگہ، کشادہ زمین۔رَحْبُ الصدر: بڑے حوصلے کا آدمی، بڑے دل والا آدمی۔رَحْبُ الفھم: زیادہ سمجھدار۔رَحْبُ الذراع بالامر: کام کرنے کے قابل۔رَحْبُ الباعِ او الذراع: سخی، فیاض۔الرُّحْبَی (ع ا): سب سے چوڑی پسلی۔الرُّحْبَیَان (ع ا): بغل سے متصل دو پسلیاں۔الرَّحْبَۃ و الرَّحَبَۃ جمع رِحَاب و رَحْب و رَحْبَات و رَحَب و رَحَبَات: کشادہ زیادہ گھاس والی اور لوگوں کی فرودگاہ زمین، گھروں کے درمیان کھلی جگہ۔۔ من الدار: گھر کا صحن۔۔ من الوادی: وادی کے ہر دو جانب پانی کے بہاؤ کی جگہیں۔رَحْبَۃُ السیّارات (ا ع): آٹو پارک، کار پارک۔وہ میدان جہاں کاریں وغیرہ کھڑی کی جائیں، مرمت کی جائیں اور تیل وغیرہ دیا جائے۔الرَّحِیب: بسیار خور، پیٹو۔المَرْحَب: کشادگی۔آنے والے سے خوش آمدید کے طور پر کہا جاتا ہے مَرْحَبًا بك: تو نے فراخی کو پایا مراد (تجھے) خوش آمدید۔مَرْحَبَكَ اللّٰہُ و مَسْھَلَكَ: اللہ تعالیٰ تم کو کشادہ اور نرم زمین میں اتارے۔اھلاً و مَرْحَبًا: تم اپنے اہل میں آئے، تم نے کشادگی پائی۔لہٰذا دل لگاؤ اور نہ گھبراؤ۔بددعا کے موقع پر کہتے ہیں: لا مَرْحَبًا بكَ۔رَحَائِب التخوم (واحد رَحِیبَۃ): وسیع وعریض ممالک۔التَّرْحَاب: خوش آمدید۔

○ رَحِبَ ـ رَحَبًا و رَحُبَ ـ رُحْبًا و رحَابَۃً: چوڑا ہونا، کشادہ ہونا، فراخ ہونا، کھلا ہونا، کافی جگہ یا گنجائش والا ہونا۔رَحَّبَ ب: کسی (شخص یا خبر وغیرہ) کو خوش آمدید کہنا، کا خیر مقدم کرنا، کسی کا بنظر توجہ استقبال کرنا، کسی کو اس کی آمد ناگوار محسوس نہ ہونے دینا، کو خوش آمدید کہنا۔تَرَحَّبَ ب: کو خوش آمدید کہنا، کا خیر مقدم کرنا۔رَحْبٌ: چوڑا، کشادہ، فراخ، کھلا، وسیع، کافی جگہ یا گنجائش والا۔رَحْبُ الصدرِ: سخی، فیاض، فراخ دل، کشادہ دل، وسیع النظر، روادار، بے تعصب، صاف دل، صاف گو، صاف باطن، بے لاگ، مخلص، پُرخلوص، ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے آزاد۔صدرٌ رَحْبٌ: سخاوت، فیاضی، فراخ دلی، کشادہ دلی، وسیع النظری، رواداری، بے تعصبی، صاف دلی، صاف گوئی، حق گوئی، بے لاگ پن، غیر جانبداری۔رَحْبُ البَاع: سخی، فیاض، فراخ دل، روادار، بے تعصب۔رَحْبُ الذراع: بمعنی رَحْبُ الباع۔رُحْبٌ: چوڑائی، کشادگی، فراخی، کھلا پن، وسعت۔اَتَی علی الرُّحْبِ والسَّعَۃِ: کو خوش آمدید کہا جانا۔وَجَدَ رُحْبًا و سَعَۃً: دوستانہ استقبال کیا جانا۔رَحَب: وسعت، فراخی، کشادگی، چوڑائی، گنجائش۔رَحَبُ الصدر: سخاوت، فیاضی، فراخ دلی، بے غمی۔رَحْبَۃ و رَحَبَۃ جمع رَحَبَات: (عمارت سے گھرا ہوا) چوک جمع رَحَبَات و رِحَاب: فراخی، کشادگی، پھیلاؤ، وسعت، وسیع علاقہ، پہنائی۔رِحَابُ الکَوْن و رِحَابُ الفَضَاء: فضائے بسیط کی وسعت، پہنائی۔رَحِیب: بمعنی رَحْب۔رَحَابَۃ: وسعت، چوڑائی، کشادگی، فراخی، کھلی جگہ، گنجائش۔رحابۃ الصدر: سخاوت، فیاضی، عالی ظرفی، فراخ دلی، بلند حوصلگی۔مَرْحَبًا بك: خوش آمدید۔تَرْحَاب: خوش آمدید، خیر مقدم، تہنیت، مبارکبادی۔قَابَلَہٗ بترحاب: کا گرمجوشی سے استقبال کرنا۔تَرْحِیب: خوش آمدید کہنا، خوش آمدید، خیر مقدم، تہنیت، مبارکبادی۔

○ رَحْرَحَ بالکلام: گول یا پہلودار بات کرنا، مبہم بات کرنا، اصل معاملہ سے دور رہنا۔رَحْرَح و رَحْرَاح: چوڑا، کشادہ، وسیع، چپٹا، بے غم وفکر اور خوشگوار (زندگی)۔

رحض: ۱۔رَحَضَ ـ رَحْضًا و اَرْحَضَ الثوبَ: کپڑا دھونا۔رُحِضَ المحمومُ: بخار والے کو پسینہ آنا۔ثوبٌ رَحْضٌ: دھوکر گھسا پٹا کپڑا۔الرُّحَاض: بخار

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے بعد آنے والا پسینہ الرَّحِیْض: دھلا ہوا، دھویا ہوا الرُّحَاضَة: دھون، دھونے پر گندہ ہونے والا پانی الرُّحَضَاء: بخار کے اترتے وقت کا پسینہ، بدن کو شرابور کرنے والا پسینہ المِرْحَاض جمع مَرَاحِیض: غسل خانہ، دھونے کی جگہ، کپڑا دھونے کا ڈنڈا، موگری، عام لوگ اسے "المخباط" کہتے ہیں، پاخانہ المِرْحَضَة و المِرْحَاضَة: وہ برتن جس میں وضو کیا جائے۔

۲ اِرْتَحَضَ الرجل: رسوا ہونا، شرمندہ ہونا۔

رحض رَحْضًا: دھونا، کھنگالنا، مل مل کر دھونا۔ مِرْحَاض جمع مَرَاحِیض: غسل خانہ، پاخانہ، بیت الخلاء۔

رحق الرُّحَاق شراب الرَّحِیق: شراب، ایک قسم کی خوشبو مِسْكٌ رَحِیْقٌ: خالص مشک حَسَبٌ رَحِیْقٌ: خالص بے کھوٹ حسب۔

رحل الرَّحَلَ رَحْلًا و رَحِیلًا و تَرْحَالًا عن المکان: کوئی جگہ چھوڑ جانا ــ اِلی المکان: کسی جگہ منتقل ہونا ــ البعیرَ: اونٹ کی پیٹھ پر کجاوہ باندھنا، اونٹ پر سوار ہونا ــ البلادَ: ملک میں ادھر ادھر پھرنا، گھومنا رَحَّلَ ہُ: کو تنگ کرنا، کوچ کرانا، کے کوچ کرنے میں کوشش کرنا ــ الثوبَ: کپڑے پر نقش و نگار بنانا اَرْحَلَہُ: کی کوچ کرنے میں مدد کرنا اَرْحَلَ: بہت سے سواری کے جانور رکھنا ــ تِ الدابَّةُ: جانور کا قوی پشت اور لاغری کے بعد فربہ ہو کر سفر کے قابل ہونا ــ ہُ: کو سواری دینا ــ الابل او الناقة: اونٹ یا اونٹنی کو سواری کے لئے سدھانا تَرَحَّلَ القوم عن المکان: لوگوں کا کسی جگہ سے منتقل ہو جانا اِرْتَحَلَ عن المکان: کسی جگہ سے منتقل ہو جانا ــ البعیرَ: اونٹ پر کجاوہ کسنا، اونٹ پر سوار ہونا اِسْتَرْحَلَ ہُ: سے سواری کا جانور مانگنا، سے سواری پر پالان ڈالنے کے لئے کہنا الرَّحْل (مص) جمع رِحَال: کجاوہ، پالان، سفر میں ساتھ رکھنے والا سامان۔ (کہا جاتا ہے حَطَّ رَحْلَہُ و اَلْقَی رَحْلَہُ: وہ رہ پڑا اور اقامت گزین ہوا)، منزل، قیام گاہ۔ آپ کہتے ہیں عادَ المسافرُ اِلی رَحْلِہ: مسافر اپنی رہنے کی جگہ لوٹ آیا الرِّحَال: عالیچہ الرُّحْلَة: جہت سفر۔ (آپ کہتے ہیں دمشقُ رُحْلَتُنَا: دمشق وہ جہت ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں)، سفر بعیرٌ ذو رُحْلَة: قوی مضبوط اونٹ عَالِمٌ رُحْلَة: وہ عالم جس کی طرف لوگ کوچ کر کے آئیں الرِّحْلَة: کوچ۔ (آپ کہتے ہیں غدًا رِحْلَتُنَا: کل ہم کوچ کر جائیں گے)۔ سفرنامہ، سفر کی قسم۔ (آپ کہتے ہیں: رحل فلانٌ رِحْلَةَ مَنْ لایعود: فلاں شخص نے ایسے شخص کا کوچ کیا جو واپس نہ آئے) بعیرٌ ذو رِحْلَة: قوی اور مضبوط اونٹ الرَّحِیل (مص) کوچ، وہ اونٹ جس پر پالان کسا ہوا ہو۔ جمل رَحِیْلٌ: چلنے کی طاقت رکھنے والا اونٹ ناقة رَحِیلَة: چلنے کی طاقت رکھنے والی اونٹنی الراحِل (فا) جمع راحِلون و رُحَّل و رُحَال: کوچ کرنے والا، منتقل ہونے والا، کسی جگہ کو چھوڑ کر جانے والا الرَّحُول: بہت کوچ کرنے والا المُرْحِل: بہت سی سواری والے جانوروں والا ــ و المُرَحَّل من الجمال: قوی اونٹ الاَرْحَل من الخیل والشاء: سفید پشت والا گھوڑا، سفید پشت والی بکری المُرَحَّل من الابل: اونٹ جس پر پالان کسا ہوا ہو ــ من الثیاب: نقش و نگار والا کپڑا۔ الرَّحَّال جمع رَحَّالة: بہت سفر کرنے والا، کجاوہ بنانے والا ــ الرَّحَّالَة: بہت سفر کرنے والا۔ الرَّاحِلَة من الابل جمع رواحِل: سواری کے لائق اونٹ، سفر و بار برداری کے لئے طاقت ور اونٹ یا اونٹنی (مذکر و مونث دونوں کے لئے) ت مبالغہ کی ہے۔ الرِّحَالَة جمع رَحَائِل: چمڑے کا زین جس میں لکڑی نہ لگی ہو الراحول: کجاوہ المَرْحَلَة جمع مَرَاحِل: اس قدر مسافت جس کو مسافر ایک دن میں طے کرے، مسافر کے ایک دن کا سفر مُرْتَحَل البعیر: اونٹ پر کجاوہ باندھنے کی جگہ۔

ہرَحَلَ ـ رَحْلًا و رَحِیلًا و تَرْحَالًا ہ بالسیف: کسی پر تلوار اٹھانا۔

سرَحَلَ ـ رَحْلًا و رَحِیلًا و تَرْحَالًا فلانٌ فلانًا بما یکرہ: کسی کا کسی سے ناگوار طور پر پیش آنا۔ کہا جاتا ہے رحلتُ لہ نفسی: میں نے اس کی اذیت پر صبر کیا تَرَحَّلَ فلانًا: کے ساتھ ناپسندیدگی سے پیش آنا اِرْتَحَلَ الامرَ: کسی امر پر قابو پانا اِسْتَرْحَلَ الناسَ نفسَہُ: خود کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا۔

رَحَلَ ـ رَحِیلًا: (سفر پر) روانہ ہونا، روانہ ہونا، چلے جانا، رخصت ہونا، چھوڑ جانا، ترک وطن کر جانا، منتقل ہو جانا ــ عن: کسی جگہ سے روانہ ہونا رجل یرحل و یقیم: ہمیشہ مصروف، کارکن شخص رَحَّلَ ہ: کو چھوڑ جانے کا باعث ہونا، کو روانہ ہونے پر اکسانا یا زور دینا ــ ہ اِلی: کو کسی دوسری جگہ نکال کر لیجانا، کو کسی دوسری جگہ بسانا، بٹھانا، کو کسی دوسری جگہ نکال دینا، جلا وطن کرنا ــ ہ: کو ہجرت کرنے دینا، کو سفر کا پروانہ دینا ــ ھم: (بحری جہاز کا) لوگوں کو لیجانا ــ ہ: کو منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانا، اٹھا لے جانا، روانہ کرنا، ارسال کرنا، آگے بھیجنا ــ ہ: (رقم وغیرہ) کو اگلے صفحے پر لے جانا تَرَحَّلَ: ادھر ادھر پھرنا، بے مقصد پھرنا، بھٹکتے پھرنا، گھومنا، سیر کرنا، سرگشت کرنا، ہجرت کرنا، دیس چھوڑنا، ترک وطن کرنا، نقل مکانی کرنا، خانہ بدوش زندگی بسر کرنا، نکالا جانا۔ اِرْتَحَلَ: روانہ ہونا، کوچ کرنا، ہجرت کرنا اِرْتَحَلَ اِلی رحمة ربّہ: مرنا، فوت ہونا، وفات پانا رَحْل جمع رِحَال: زین، کجاوہ، پالان، کاٹھی، خورجین، سفری سامان (جمع): رکنے یا ٹھہرنے کی جگہ، سفر کے دوران کسی جگہ مختصر قیام شَدَّ الرِّحَال: روانہ ہونا، کوچ کر جانا اَلْقَی رِحَالَہُ فی: کسی جگہ رکنا۔ رِحْلَة: سفر، سیاحت، سیاحی مہم کا باتصویر تذکرہ۔ رُحْلَة: منزل مقصود، وہ جگہ جہاں پہنچنا ہو رَحِیل: روانگی، ترک وطن کر کے جانا، ہجرت، مہاجرت، کوچ، موت، وفات، انتقال رَحَّال جمع رُحَّل: گھومنے پھرنے والا، کسی جگہ کے چکر لگانے والا، ادھر ادھر پھرنے والا، سرگشت کرنے والا، سیر کرنے والا، بھٹکنے والا، ہجرت کرنے والا، نقل مکانی کرنے والا، خانہ بدوش، خانہ بدوشانہ جمع رَحَّالَة: بڑا مسافر، سیاح، غیر معروف علاقہ کی سیاحت کرنے والا، خانہ بدوش، بدوی الطیورُ الرحَّالَة: نقل مکانی کرنے والے پرندے الأعراب (العُرْبان) الرُّحَّل: خانہ بدوش بدوی رَحَّالَة: بڑا سیاح، مسافر، غیر معروف علاقہ کی سیاحت کرنے والا، جہاں گرد، جہاں گشت مَرْحَلَة جمع مَرَاحِل: ایک دن کا سفر، سفر کا ایک مرحلہ، راستہ میں رکنے یا قیام کرنے کی جگہ، مرحلہ، مقام، دور۔ یَزِیدُ علیہ بِمَرَاحِل: یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فی مراحل حیاتھا: اس خاتون کی زندگی بھر، اس خاتون کی زندگی کے تمام مراحل میں تَرَحُّل: روانگی۔ حیاة الترحال: خانہ بدوشانہ زندگی تَرْحِیل: ترک وطن، ہجرت، جلاوطنی، دوسرے ملک میں منتقل ہونا، رحلت، کوچ خروج، کسی کی روانگی کی تکمیل یا اس کا بروئے کار لانا، دیس نکالا، جلاوطنی، انخلا، دوبارہ آباد ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال، نئے گھر میں جانا، مسافر یا اسباب لیجانا، نقل و حمل، حساب کھاتے میں درج کرنا، رقم وغیرہ دوسرے صفحہ پر لیجانا، ارسال، ترسیل تَرْحِیل عُمَّال: کام کرنے والوں کا تقرر۔ اِرْتِحَال: روانگی، کوچ، ترک وطن، جلاوطنی، دوسرے ملک میں منتقلی، خروج، اخراج، موت، وفات رَاحِل

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جمع رُحَّل: کوچ کرنے والا، روانہ ہونے والا، چھوڑ کر جانے والا، جدا ہونے والا، سفر کرنے والا، سیاحت کرنے والا جمع اِحِلّون: متوفی، آنجہانی، دنیا سے جانے والا، مرحوم۔المفقید الراحل: مرحوم۔ رَاحِلَة جمع رَوَاحِل: سواری کی اونٹنی۔شدَّ رَاحِلَتَہٗ: اونٹ پر پالان کسنا، سفر پر روانہ ہونا۔مُرَحَّل جمع مُرَحَّلات: رقم وغیرہ جو اگلے صفحہ پر لیجائی گئی ہو۔مجموعٌ مُرَحَّلٌ: میزان جو اگلے صفحہ پر لیجایا گیا ہو۔

◌ راحیل: راحِل (عورتوں کا نام)۔

رحم: ا رَحِمَ ـ رَحْمَةً و مَرْحَمَةً و رُحْماً و رُحُماً ہٗ: پر ترس کھانا، رحم دل ہونا، مہربانی و شفقت کرنا، کو معاف کرنا، کی مغفرت کرنا۔رَحَّمَ و تَرَحَّمَ علیه: کیلئے رَحِمَہُ اللّٰہُ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرے اور اسے معاف کرے۔تَرَاحَمَ القَومُ: ایک دوسرے پر رحم کرنا، ترس کھانا۔اِسْتَرْحَمَہٗ: سے مہربانی کی التجا کرنا۔الرُّحْم و الرَّحْمَة و الرُّحْمٰی: نرم دلی ترس جو مغفرت و احسان کا مقتضی ہو۔الراحم و الرَّحُوم: مہربانی کرنے والا، ترس کھانے والا، شفقت کرنے والا، معاف کرنے والا۔الرَّحِیم جمع رُحَمَاء: بمعنی الراحم۔اللہ تعالیٰ کا ایک نام، رحم کیا ہوا۔الرَّحْمٰن: مہربانی کرنے والا۔اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام اور اللہ تعالیٰ سے مخصوص۔المُرَحَّم: رحم اور معاف کیا ہوا ـــ والمرحوم: متوفی۔المَرْحَمَة جمع مَرَاحِم: رحمت۔الرَّحَمُوت: رحمت عظیم۔کہا جاتا ہے: رَهَبُوتٌ خیرٌ مِن رَحَمُوت: تیرا ڈرایا جانا اس سے بہتر ہے کہ تجھ پر مہربانی کی جائے۔(یہ ہمیشہ جوڑا استعمال ہوتا ہے)۔

۲ رَحِمَ ـ و رَحُمَ ـ رَحْماً و رَحَماً و رَحَامَةً و رُحِمَت المرأةُ: ولادت کے بعد عورت کے رحم میں شکایت پیدا ہو جانا۔صفت رَحُوم و رَحِمَة و رَحْمَاء۔الرَّحِم و الرِّحم (مؤنث) جمع أرحام: بچہ دانی، رشتہ داری۔کہا جاتا ہے ھو ذو الرحم: رشتہ دار، قرابت والا۔الرُّحَام (طب): رحم کی ایک بیماری۔

◌ رَحِمَ ـ رَحْمَةً و مَرْحَمَةً ہٗ: پر رحم کھانا، ترس کھانا، پر مہربانی کرنا، رحم کرنا، کو چھوڑ دینا۔ترحَّمَ علیه: کسی کو رَحِمَكَ اللّٰہُ کہنا جس کا معنی اللہ تجھ پر رحم کرے ہے ـــ علی: اللہ تعالیٰ سے کسی پر رحم کرنے کی درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہوا اس کے لئے عفو و در گذر کی التجا کرنا۔ترحَّمَ علیه بمعنی رَحَّمَ علی۔تَرَاحَمَ: ایک دوسرے کے لئے انسانی مفاہمت ظاہر کرنا، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کا احترام کرنا۔اِسْتَرْحَمَہٗ: سے مہربانی یا رحم کی درخواست کرنا۔رَحِم و رِحْم جمع أرحَام: رحم، بچہ دانی، رشتہ داری، قرابت۔ذوو الارحام: ماں کی طرف سے رشتہ دار۔رَحْمَة: رحم، ترس، انسانی مفاہمت، مہربان، ہمدردی، عفو و در گذر۔کان تحت رَحْمَتِه: کسی کے رحم و کرم پر ہونا۔جَعَلَهٗ تحت رحمته: کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑنا۔بساط الرحمة: جنازے کے اوپر کی چادر یا تابوت کو ڈھکنے والی چادر، قبر کی چادر۔رَحِیم جمع رُحَمَاء و رُحُوم: رحم دل، نرم دل، دردمند، مہربان، غفور، رحیم، کریم، ترس کھانے والا، خدا ترس۔الرحمان: رحیم، اللہ تعالیٰ کا ایک نام۔مَرْحَمَة جمع مَرَاحِم: رحم، ترس، دیا، رحم، خدا ترسی، تلطف، مہربانی، ہمدردی، شفقت، عفو، در گذر۔تَرْحِیم المَوْتٰی جمع تَرَاحِیم: مرنے والے کے لئے دعا (میت میں)۔اِسْتِرْحَام: رحم کی درخواست۔مَرْحُوم: متوفی، مرنے والا۔المرحوم السید: مرحوم جناب فلاں۔

رحا: ا رَحَا ـ رَحْوًا و رَحًی ـ رَحْیًا و تَرَحَّتِ الحَیَّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔

۲ رَحَا ـ رَحْوًا الرحی: چکی چلانا۔الرَّحٰی (مونث) تثنیه رَحَوَان و رَحَیَان جمع أرحَاء و أرْحِیَة و أرْحٍ و رُحِیّ و رِحِیّ و أرْحِیّ: چکی ـــ جمع أرْحَاء: لڑائی کا گھمسان، داڑھ۔کہا جاتا ہے طَحَنَهٗ بأرْحَائِه: اس نے اسے اپنی داڑھوں سے پیس ڈالا۔المُرْحَی: گھمسان کی لڑائی۔المُرَحِّی: چکی بنانے والا۔

۳ الرَّحٰی جمع أرحَاء: سینہ، قوم کا سردار (کہا جاتا ہے ھو رَحٰی قومِه: وہ اپنی قوم کا سردار ہے) بدلی (چھوٹا بادل) وہ قبیلہ جو گھاس پانی کی طلب میں نہ جائے اور اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔

◌ رَحًی مونث جمع أرحَاء و رُحِیّ و أرْحِیَة: چکی (ہاتھ کی) حَجَرُ الرَّحٰی: چکی کا پاٹ، وارث رَحَی الحرب/القتال: جنگ (لڑائی کا) یکایک لگ جانا، جنگ (لڑائی) جاری تھی۔رَحَوِیّ: گھومنے والا، گردش کرنے والا۔رَحَّای جمع رَحَّایون: پیسنے والا۔

رخ: ا رَخَّ ـ رَخًّا ہٗ: کو پاؤں سے روند کر ڈھیلا کرنا۔الشـ[illegible] پانی [illegible] العجین: گندھے ہوئے آٹے میں پانی زیادہ ہو جانا۔عام لوگ رَخَّهٗ کو اتفاق سے ضرب لگانا کے معنے میں لیتے ہیں اور رَخّ سے سر جھکانا یا زمین کی طرف جھکنا مراد لیتے ہیں۔ارَخَّ العجین: گندھے ہوئے آٹے میں پانی زائد کرنا ـــ فی الامر: معاملہ میں مبالغہ کرنا۔اِرْتَخَّ الرجلُ: ڈھیلا ہونا، مضطرب ہونا۔الرَّخّ: ہلکی پھوار، ترخ (عام لوگوں کی زبان میں)۔الرَّخَخ: سہولت، نرمی۔الرَّخَاخ (ن): نرم و تازہ پودا۔رَخَاخُ العَیْش: زندگی کی آسودگی و فراخی۔عَیْشٌ رَخَاخٌ: آرام دہ، خوشگوار زندگی۔ارضٌ رَخَاخٌ: نرم زمین۔ارضٌ رَخَّاء جمع رَخَاخِیّ: نرم زمین۔

۲ الرُّخّ جمع رِخَاخ و رِخَخَة: شطرنج کا ایک مہرہ۔ واحد رُخَّة جمع رِخَاخ و رِخَخَة (ح): ایک خیالی بڑا پرندہ۔

۳ الرَّخْرَخ و الرَّخْرَاخ: پتلا گارا۔المُرَخْرَخ: نرم و تازہ۔

◌ رَخَّ ـ رَخًّا ہ: شراب میں پانی ملانا، میں پانی ملا کر ہلکا کرنا۔رَخّ واحد رخة: ہلکی پھوار، ترخ۔رُخّ: ایک بڑے افسانوی پرندے کا نام (جمع رخاخ و رِخَخَة): رُخّ: شطرنج کا ایک مہرہ۔رَخَاخ: نرم (زمین)، آرامدہ، خوشگوار اور مطمئن (زندگی)۔

رخت: الرَّخْت جمع رُخُوت: زین۔

رخش: تَرَخَّشَ و اِرْتَخَشَ: مضطرب ہونا۔الرُّخْشَة: اضطراب۔

رخص: ا رَخُصَ ـ رُخْصًا الشیءُ: سستی ہونا۔صفت رَخِیص۔رَخَّصَ السعرَ: بھاؤ مندا کرنا، گھٹانا، سستا کرنا۔ارْخَصَہٗ: کو سستا کرنا، کو سستا پانا یا سستا خریدنا۔اِرْتَخَصَہٗ: کو سستا سمجھنا یا سستا خریدنا۔اِسْتَرْخَصَ الشیءَ: کو سستا سمجھنا۔الرَّخِیص: سستا۔موتٌ رَخِیصٌ: جلد آنے والی موت۔

۲ رَخُصَ ـ رَخَاصَةً و رُخُوصَةً: نرم و نازک ہونا۔صفت رَخْصٌ و رَخِیصٌ مونث رَخْصَة جمع رِخَائِص۔

۳ رَخَّصَ لهٗ کذا او فی کذا: کسی کو کسی چیز کی ممانعت کے بعد اس کی اجازت دینا۔ترخَّصَ فی الامر: کسی امر میں رخصت پر عمل کرنا ـــ فی کذا: کو کسی اجازت دیا جانا ـــ فی حقّه: اپنے حق میں جو ممکن ہو لینا، حق پورا نہ لینا۔الرُّخْصَة و الرُّخُصَة: تخفیف، آسانی۔(کہا جاتا ہے لكَ فی هذا الامر رُخصة: تیرے لئے اس معاملہ میں تخفیف یا آسانی ہے)، پینے کی باری۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رَخُصَ ـُ رُخْصًا سستا ہونا، ارزاں ہونا۔ رَخَاصَةً: نرم و لچکدار ہونا، نازک ہونا۔ رَخَّصَ ل ب/فی: کو کی اجازت دینا، کو کچھ کرنے کی اجازت دینا، کو کچھ کرنے کا اختیار دینا، کو کالائسنس دینا۔ ــــ ل: کو اختیار دینا، مختار کرنا، مجاز کرنا۔ ہ کی قیمت کم کرنا۔ اَرْخَصَ ہ کی قیمت کم کرنا۔ تَرَخَّصَ مع فی: کو میں خوش کرنے پر آمادہ ہونا، کو میں جائز شرائط پر ملنا، سے میں معاملہ کو رفع دفع کرنے کو تیار ظاہر کرنا ــــ فی ب میں رعایتیں دینا۔ فی میں بیجا بے تکلفی سے کام لینا۔ اِسْتَرْخَصَ ہ کو سستا پانا، ارزاں سمجھنا۔ ہ کی اجازت چاہنا۔ رَخْص نرم، لچکدار، نازک۔ رُخْص ارزانی۔ رُخْصَة جمع رُخَص اجازت، رعایت، لائسنس، حق، رسائی، اختیار، رخصت، پرمٹ۔ رُخْصَة قيادة السيارات: کار چلانے کا پرمٹ، لائسنس۔ رَخِيص لچکدار، نازک، نرم، سستا، ارزاں، کم قیمت، نکمی وردی چیز، گھٹیا بھڑک دار چیز، محض نمائشی۔ تَرْخِيص جمع ترخيصات: اجازت دینا، اجازت، اختیار، اختیارات تفویض کرنے والا فرمان، رعایت، لائسنس، قیمت میں کمی، قیمت میں کٹوتی۔ مُرْتَخَص کم قیمت، ارزاں، سستا۔ كل مُرْتَخَص و غالٍ: ہر چیز (جو کسی کے اختیار میں ہو)۔ خیال میں آجانے والی ہر کوشش۔

رخف: رَخُفَ ـُ رَخْفًا و رَخِفَ ـَ رَخَفًا و رَخُفَ ـُ رَخَافَةً و رَخُوفَةً العجينُ: گندھے ہوئے آٹے کا ڈھیلا ہونا، پتلا ہونا۔ صفت رَخْفٌ و راخِفٌ۔ اَرْخَفَ العجينَ: آٹے کو پتلا کرنا، آٹے میں پانی زیادہ کرنا۔ الرَّخْف جمع رِخَاف: ڈھیلا یا پتلا آٹا، پتلا مکھن۔ الرَّخْفَة جمع رِخَاف: پتلا آٹا یا مکھن۔ والرَّخِيف: نرم پتلا پتھر۔

رخل: الرِّخْل و الرَّخِل والرِّخْلَة جمع اَرْخُل و رُخَال و رِخَال و رِخْلان و رَخْلَة و رَخَلَة (ح): بھیڑ کا مادہ بچہ۔ المُتَرَخِّل: بھیڑ کے مادہ بچے بہت رکھنے والا۔

رخم: ا رَخُمَ ـُ رَخْمًا و رَخُمَ ـُ رَخَامَةً الصوتُ او الكلامُ: آواز یا کلام کا باریک و نرم ہونا۔ صفت: رَخِيم۔ ــ ت الجاريةُ: لڑکی کا نرم کلام والی ہونا۔ صفت رَخِيمة و رَخِيم۔ رَخَّمَ تَرْخِيمًا الشيءَ: چیز کو باریک و نرم کرنا، کی دم کاٹنا۔ اسی سے نحویوں نے ترخيم المنادىٰ کو لیا ہے۔ یعنی ندا کے طور پر آنے والے نام کے آخری حرف کو حذف کر دینا۔

۲ رَخَمَ ـُ رَخْمًا و رَخَمًا و رَخَمَةً ت الدجاجةُ البيضَ و على البيضِ: مرغی کا انڈے سینا۔ صفت رَاخِم و مُرْخِم و مُرْخِمَة۔ ـــ رَخْمًا و رُخْمَةً و رَخَمَةً ت المرأةُ ولدَها: عورت کا اپنے بچہ سے کھیلنا اس سے لاڈ پیار کرنا ـــ ہُ: پر رحم و مہربانی کرنا۔ رَخِمَ: بمعنی رَحِمَ۔ رَخَّمَ تَرْخِيمًا الدجاجةَ: مرغی کو انڈوں پر بٹھانا۔ اَرْخَمَ تِ الدجاجةُ على البيضِ: مرغی کا انڈے سینا۔ صفت رَاخِم و مُرْخِم و مُرْخِمَة۔ الرَّخَم (مص): نرمی، محبت۔ الرُّخَامَى: نرم ہوا۔

۳ الرَّخَم: گاڑھا دودھ۔ الرَّخَم واحد رَخَمَة جمع رُخَم (ح): گدھ۔ الرُّخَام: سنگ مرمر۔ الرُّخَامَة: سنگ مرمر کا ایک ہموار تختہ۔ الاَرْخَم من الخيل مؤنث رَخْمَاء جمع رُخْم: وہ گھوڑا جس کا سر سفید اور باقی جسم سفید ہو۔ الرُّخَامَى (ن): ایک قسم کا پودا۔ المَرْخُوم و اليَرْخُوم و اليَرْخُم (ح): نر گدھ۔

رَخَمَ ـُ رَخَامَةً و رَخَمَ ـُ رُخْمًا: آواز کا نرم، ملائم، لطیف، خوشگوار ہونا۔ رَخَمَتْ بيضَها و على بيضِها: مرغی کا انڈے سینا، انڈوں پر بیٹھنا۔ رَخَّمَ ہ: آواز کو نرم و ملائم کرنا۔ ہ: (لفظ) کو حذف کرنا، مختصر کرنا یا کم کرنا ــــ ہ: فرش پر سنگ مرمر کے ٹائل لگانا۔ رَخَم واحد رَخَمَة: مصری گدھ۔ رُخَام: سنگ مرمر۔ رُخَامَة جمع رُخَامات: سنگ مرمر کا ہموار تختہ، سلیب (slab)۔ رَخِيم: نرم، ملائم، خوشگوار، خوش آہنگ، سریلی، رسیلی (آواز)، ہلکا سر، نیچا سر۔ تَرْخِيم: کم کرنا، مختصر کرنا، حذف کرنا (خصوصاً منادیٰ کے آخری حرف صحیح کو)۔

رخی: ا رَخِيَ ـَ رَخًا و رِخْوَةً و رَخُوَ ـُ رَخَاوَةً: نرم ہونا، آسان ہونا، آسودہ زندگی والا ہونا۔ صفت رِخْو و رُخْو و رَخْو۔ رَخَا ـُ و رَخِيَ ـَ و رَخُوَ ـُ رَخَاءً العيشُ: زندگی کا آسودہ، فراخ و خوشگوار ہونا۔ صفت رَاخٍ و رَخِيّ۔ رَخَّى الشيءَ بالشيءِ: چیز کو چیز میں ملانا، خلط ملط کرنا۔ رَاخَى مُرَاخَاةً الشيءَ: کو نرم کرنا ــــ العقدةَ: گرہ کھولنا۔ کہا جاتا ہے رَاخَى خناقَهُ او رِبَاقَهُ: اس نے اس کے پھندے دور کر دیئے۔ اَرْخَى اِرْخَاءً الشيءَ: کو ڈھیلا کرنا۔ کہا جاتا ہے اَرْخَى عمامتَه: وہ مطمئن اور مامون ہوا۔ ــــ زِمامَ الناقةِ: اونٹنی کی نکیل کو ڈھیلا چھوڑنا ــــ الستر: پردہ چھوڑنا ــــ دابَّتَهُ: جانور کو اپنی مرضی سے چلنے دینا، تھکائے بغیر دوڑنے دینا ــــ الفرسَ و للفرسِ: گھوڑے کی رسی دراز کرنا۔ کہا جاتا ہے اَرْخِ لَهُ الحبلَ: اسے کام کرنے میں آزادی دو۔ تَرَاخَى الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنے میں سست و کاہل ہونا۔ تَرَخَّى: ڈھیلا ہونا، نرم ہونا۔ اِسْتَرْخَى: ڈھیلا ہونا، نرم ہونا ــــ ت به حالُهُ: کی اس کی حالت سختی و تنگی کے بعد اچھی اور خوشگوار ہونا۔ الرَّخَاء (مص): زندگی کی آسودگی و فراخی۔ الرُّخَاء: نرم ہوا جو کسی چیز کو نہ ہلائے۔ المِرْخَاء جمع مَرَاخٍ: تیز دوڑنے والا جانور۔ المُتَرَاخِي مصدر تَرَاخِي: کہا جاتا ہے ان في الامر تَرَاخِيًا: اس امر میں گنجائش اور پھیلاؤ ہے ــــ الاخلاقي: اخلاقی ڈھیلا پن، آوارگی، بدچلنی، اخلاقی کمزوری۔ الاُرْخِيَة جمع اَرَاخِيّ: ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے۔ الرَّخْوِيَات (ج): بحری یا پانی کے ڈھیلے جانور خصوصاً گھونگے دار سیدھے اور شکمی۔

۲ رَاخَى مُرَاخَاةً ہُ: کو دور کرنا۔ کہا جاتا ہے خلتُ الفرار يُراخي الاجلَ: میں نے خیال کیا کہ فرار موت کو دور کر دیتا ہے۔ تَرَاخَى تَرَاخِيًا: پیچھے رہنا، دیر کرنا۔ کہا جاتا ہے تراخت السماءُ: بارش برسنے میں دیر ہوئی۔ عنه: سے دور ہونا۔

۳ رَاخَى ت المرأةُ: عورت کا بچہ جننے کے قریب ہونا۔

رَخُوَ ـُ و رَخِيَ ـَ رَخَاوَةً و رَخَاءً: ڈھیلا ہونا یا ہو جانا، کمزور، کاہل یا سست ہونا یا ہو جانا، نرم ہونا یا ہو جانا، سست پڑ جانا، ٹھنڈا پڑ جانا، جھک جانا، گھٹنا، مندا ہونا۔ رَخَا ـُ رَخَا عيشُهُ: متمول زندگی گزارنا، اچھے حالات میں زندگی بسر کرنا۔ اَرْخَى ہ: کو ڈھیلا کرنا، چھوڑنا، نیچا کرنا، گرانا، لٹکانا۔ تَرَاخَى: سست ہونا، جھکنا، خمیدہ ہونا، گر پڑنا، لنگڑا ہو جانا ــــ عن: میں نا طاقتی یا تھوڑی سرگرمی ظاہر کرنا، کم طاقت ور ہونا، ڈھیلا ڈھالا یا بے پرواہ ہونا، فرض ناشناس ہونا ــــ: قیمتوں کا گرنا، مضمحل ہونا، پیچھے رہنا، (منڈی کا) ماند، سرد یا پھیکا پڑنا، کم ہونا، گھٹنا، نڈھال ہونا، اُترنا، کمزور ہونا ــــ عن: سے باز رہنا ــــ: (پردہ) کا گرنا، نیچا ہونا، دیر کرنا، کم ہونا۔ اِسْتَرْخَى: سست ہو جانا، مندا ہونا، جھکنا، دہرا ہونا، گر پڑنا، لنگڑا ہو جانا، ڈھیلا ڈھالا ہو جانا، ڈھیلا ہو جانا، نرم ہو جانا، کھلا ہو جانا، کھلنا، گھٹنا، کم ہو جانا، کم مضبوط ہونا، نڈھال ہونا، طاقت زائل ہونا۔ رَخْو و رِخْو: ڈھیلا، ڈھیلا ڈھالا، سست، کاہل الوجود، لنگڑا، نرم، ڈھیلا، آرام طلب نکما، پژمردہ، نڈھال، سست رفتار، لچکدار۔ رَخَاء: آرام، آسائش، خوشی، فروغ، اقبال مندی، فراخی، فراوانی،

امیری، امارت، خوشحالی، انصاف، قیمتوں کی گراوٹ۔ رُخَاء: نرم وہلکی ہوا۔ رَخَاوَۃ: نرمی، ڈھیلا پن، لنگڑاہٹ، بے پروائی، برائی، خرابی۔ رَخاوَۃ العُود: کردار کی کمزوری۔ رَخِی: کمزور، نڈھال، پژمردہ، ستایا ہوا، آرام سے، گرم اور آرام دہ۔ تَرَاخٍ: لنگڑاہٹ، سستی، کاہلی، ڈھیلا پن، کمزوری، ناتوانی، تھکاوٹ، تھکن، آلکسی، کمی، تخفیف، قوت میں کمی، ستانا، چھوڑنا، کشادگی۔ اِرْتِخَاء: ڈھیلا ہونا، ست ہونا، الکسانا بے ترتیبی، ڈھیلا پن، کشادگی، مندا ہونا، سرد بازاری، بے پروائی، غفلت، کمی، گھٹاؤ، تخفیف، کٹوتی، نرمی، تسکین، قوت کی کمی، آسائش، آرام، بے پروائی، ڈھیلا پن، ستانا، تخفیف، رعایت، لنگڑاہٹ، کمزوری، ناتونی، تکان، پژمردگی، سستی، آلکسی، ضعف، کمزوری، بے کیفی۔ اِسترخاء بمعنی ارتخاء راخٍ: خمیدہ جھکنے جانے والا، افسردہ، مضمحل۔ مُتَرَاخٍ: لنگڑا، نرم، ڈھیلا ڈھالا، پرشکن، کمزور، ناطاقت، پلپلا، بے جان، ضعیف، تھکا ماندہ، ست کاہل، مضمحل، بے ہمت، مردہ دل، بے کیف، بے رونق، بے پروا، غافل، آلکسی، آرام طلب۔

ردّ: ا۔ رَدَّ ـُ رَدًّا و مَرَدًّا و مَرْدُودًا و رِدِّیْدَی ہٗ عن کذا: کو سے پھیرنا، واپس کرنا۔ ـــ ہٗ اِلی بیتہ: کو اس کے گھر کی طرف لوٹانا۔ کہا جاتا ہے: مایَرُدُّ ھذا علیك شیئًا: یہ چیز تم کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچائے گی۔ ـــ الیہ جوابًا: کو جواب بھیجنا۔ ـــ علیہ الشیءَ: کسی کی کوئی چیز پھیر دینا، قبول نہ کرنا۔ ـــ الشیءَ: چیز کو ایک حالت سے دوسری میں پھیر دینا۔ جیسے: فَرَدَّ شعورھُنَّ السودَ بیْضًا: چنانچہ اس نے ان خواتین کے کالے بالوں کو سفید کرایا۔ ـــ فلانًا: کو خطا کار ٹھہرانا۔ ـــ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ ـــ تَرْدَادًا القولَ: بات کو بار بار دہرانا۔ رَدَّدَ القولَ: بمعنی رَدَّ القول ہے اور باب تفعیل کثرت کے لئے ہے۔ رَادَّہٗ فی الکلام: سے بحث کرنا۔ ـــ ہٗ الشیءَ: کو چیز واپس کر دینا۔ تَرَدَّدَ: دہرایا جانا۔ ـــ فی الأمر: کسی امر میں متردد ہونا، شک وشبہ میں پڑنا۔ ـــ الیہ: کسی کے پاس بار بار آنا۔ ـــ فی الجواب: جواب میں زبان کا لڑکھڑانا۔ تَرَادَّ الماءُ: پانی کا بہاؤ کے مقام میں کسی روک کی وجہ سے پانی کا پیچھے ہٹنا۔ ـــ فی الجواب: جواب میں زبان کا لڑکھڑانا۔ ـــ البیعَ: فسخ بیع پر آپس میں رضامند ہونا۔ اِرْتَدَّ الشیءَ: چیز کو واپس کرنا، کی واپسی چاہنا۔ ـــ علی اثرہ او عن طریقہ: اپنے قدموں پر لوٹنا۔ ـــ عن دینہ دین سے پھر جانا۔ ـــ عن ھبتہ: ہبہ کو واپس لے لینا، لوٹا لینا۔ ـــ اِلی الصواب: صواب کی طرف لوٹ جانا۔ اِسْتَرَدَّ الشیءَ: کی واپسی کرنے کا سوال کرنا، کی واپسی چاہنا۔ ـــ الھبۃ: ہبہ کو واپس لوٹا دینا۔ ـــ ہٗ الشیءَ: کسی سے شے کی واپسی کا سوال کرنا، مطالبہ کرنا۔ الرَّدّ (مص): زبان کی لڑکھڑاہٹ، پیداوار۔ کہا جاتا ہے: ضیعۃ کثیرۃ الرد: بہت پیداوار والی جاگیر۔ درھمٌ رَدٌّ: کھوٹا درہم۔ لاتعطنی من ردود الدراھم: مجھے کھوٹے درہم نہ دو۔ شیٌ رَدٌّ: ردی چیز۔ امرٌ رَدٌّ: طریقہ شریعت کے خلاف کام۔ الرِدّ: چیز کی ٹیکی یا سہارا۔ الرَدَّۃ: ردّ کا اسم مرہ، خوش روئی کے ساتھ کچھ بدروئی۔ کہا جاتا ہے: فی وجھہ رَدَّۃ: اس کے چہرہ میں کچھ بھونڈا پن ہے۔ الرِدَّۃ: ارتداد (کہا جاتا ہے: شربت الابلُ رِدَّۃً: اونٹوں نے دوسری بار پانی پیا)، تھوڑی کا پچکنا، پہاڑ کی گونج۔ الاَرَدّ: زیادہ نفع بخش۔ الرُدّی: مطلقہ، طلاق دی ہوئی عورت۔ المِرَدّ من الرجال: بہت رد کرنے والا بہت حملے کرنے والا۔ الرَداد و الرِداد: واپسی۔ الرَدِید: وہ بادل جو پانی برسا چکا ہو۔ التَرْداد: ردّ، تکرار۔ الرَادَّۃ والمَرَدَّۃ: فائدہ۔ کہا جاتا ہے: لارادَّۃَ اولا مَرَدَّۃَ فیہ: اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ المُرَدَّد: حیران۔ المَرْدُود (مفع): غیر مقبول۔ کہا جاتا ہے: رایٌ مَرْدُودٌ: نامنظور رائے۔ مَرْدُودُ او عائِدُ آلۃٍ ما (ف): مشین کی پیداواری طاقت کی اس طاقت کی طرف نسبت جو اسے خرچ کرتی ہے۔ المَرْدُودَۃ: مردود کا مؤنث، استرا۔

۲۔ اَرَدَّ البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا۔ ـــ الرجلُ: غصہ سے پھول جانا۔ ـــ ت الشاۃُ: بکری کا تھن والی ہونا۔ صفت: مُرِدّ۔ الرِدَّۃ: بچہ جننے سے پہلے بکری کے تھنوں کا دودھ سے بھر جانا۔ الشُرِدّ (فا) جمع مَرَادّ: غضبناک، ناراض، زیادہ پانی پی جانے والا اونٹ، عرصہ دراز تک سفر میں رہنے والا یا بغیر بیوی کے رہنے والا۔ السَرْدُود: عرصہ تک سفر میں رہنے والا یا دیر تک بغیر بیوی رہنے والا۔

رَدَّ ـُ رَدًّا: واپس بھیجنا۔ ـــ ہ الی: کو کے پاس واپس لانا، لیجانا۔ ـــ ہ اِلی: کو اس کی جگہ لوٹانا، کو اس کی جگہ دوبارہ رکھنا، لگانا۔ ـــ ہ: کو دھکیلنا، دور کرنا، پیچھے کو گرانا، پچھاڑنا، کی مخالفت کرنا، مزاحمت کرنا، کو طاقت سے روکنا، کا مقابلہ کرنا، کی مقاومت کرنا۔ ـــ ہ (خواہش کی تکمیل وغیرہ) کو مسترد کرنا، (اس خواہش کو [illegible]) کو روکنا، حملہ سے بچنا، وار خالی دینا، دفع کرنا، پیچھے ہٹانا۔ ـــ تُھْمَۃً: شک وشبہ رد کرنا۔ ـــ ہ اِلی: کو کسی کو واپس دینا، لوٹانا، واپس کرنا۔ ـــ السلامَ: سلام کا جواب دینا۔ ـــ علی: کسی کو جواب دینا۔ ـــ ہ (روشنی) منعکس کرنا، (آواز) کو لوٹانا۔ ـــ علی: کسی چیز کو غلط ثابت کرنا، باطل کرنا، جھٹلانا، غلط ٹھہرانا، (کسی بات) کی تردید کرنا، کو باطل ثابت کرنا۔ ـــ ہ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا، کو سے روکے رکھنا، کو سے باز رہنے کو کہنا، کو کوئی کام نہ کرنے پر آمادہ کرنا۔ ـــ ہ اِلی: کو (اصل) سے منسوب کرنا، کی اصل یا وجہ معلوم کرنا، دریافت کرنا۔ ـــ ہ علی: کو کے پاس لانا، کو کے حوالے کرنا۔ ـــ ہ ہ: کو دوبارہ بطور...... مقرر کرنا، بحال کرنا۔ رَدَّہٗ حاکِمًا: کو دوبارہ گورنر مقرر کرنا، بحال کرنا۔ رَدَّ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ رَدَّ جو ... جواب دینا۔ ما یرد ھذا علیك شیئًا: یہ تمہاری قطعا کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لا یُرَدُّ: ناقابل تردید۔ رَدَّہٗ علی عَقِبَیْہِ جمع رَدَّھُمْ علی اَعْقابِہِم: کو اس جگہ واپس دھکیل دینا جہاں سے وہ آیا تھا۔ رَدَّ عَیْنَہٗ عنہ: اس نے اپنی/اس کی آنکھیں اس سے ہٹا دیں۔ رَدَّدَ ہ: کو دور رکھنا، ہٹانا، پھیرنا، موڑنا، کو نہ ہونے دینا، کو روکنا۔ ـــ: دہرانا (اکثر)۔ ـــ ہ: کو شروع کرنا۔ ـــ ہ: کسی دھن میں پڑھنا، کو لحن سے پڑھنا۔ رَدَّدَ الصَدیٰ: گونج، صدائے بازگشت لوٹانا۔ رَدَّدَ النظر فی: کسی چیز کی طرف بار بار دیکھنا۔ رَدَّدَ طَرَفَہٗ بین: پہلے ایک اور پھر دوسرے کی طرف دیکھنا، کے مابین آنکھیں بھٹکنے دینا۔ تَرَدَّدَ: (آواز، گونج، صدائے بازگشت کا)، اٹھنا، گونج پیدا کرنا (چیخوں کا) بلند ہونا، (ہوا) کا بار بار پلٹنا۔ ـــ علی: کے گھر آنا جانا (صلہ اِلی اس معنی میں شاد و نادر استعمال ہوتا ہے)۔ ـــ: لوٹنا، عود کرنا، بار بار واقع ہونا۔ ـــ فی: میں، کرنے میں پس وپیش کرنا، تامل کرنا، ہچکچانا، غیر آمادہ ہونا، بیدل ہونا، تذبذب کرنا، شک کرنا، شکی ہونا۔ تَرَدَّدَ علی الألْسِنَۃ: (مسئلہ کا) اکثر زیر بحث آنا۔ اِرْتَدَّ: پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، پیچھے کی طرف جانا، پستی کی طرف جانا، زوال پذیر ہونا۔ ـــ اِلی: کی طرف لوٹنا، واپس جانا، آنا، رجوع کرنا، کا سہارا لینا، پر اکتفا کرنا۔ ـــ: (کسی شخص یا چیز کو) چھوڑ جانا، غیر حاضر ہونا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا، قطع تعلق کرنا، کو اپنا ماننے سے انکار کرنا، کو چھوڑ بیٹھنا، سے چلے جانا، کو ترک کر دینا، (ایمان، اصول وغیرہ) سے الگ ہو جانا، کو چھوڑ دینا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سے دغا کرنا، کا ساتھ چھوڑ دینا، کو بیوفائی سے چھوڑ دینا، سے مرتد ہوجانا، برگشتہ ہوجانا۔ اِرْتَدَّ علی عَقِبَیْہِ جمع اِرْتَدُّوا علی اَعْقَابِھِم: پیچھے ہٹنا، واپس مڑ جانا۔ اِسْتَرَدَّ ہ: کی واپسی کی درخواست کرنا یا حکم دینا۔ــ ہ اِلی: کو کے پاس واپس لانا، لیجانا۔ــ ہ کو واپس لینا، کو دوبارہ پانا، لے لینا۔ــ یَدَہٗ: اپنا ہاتھ پیچھے ہٹانا۔ اِسْتَقَالَتَہٗ: اپنا استعفٰی واپس لینا۔ــ ہ: (بنک وغیرہ سے) روپیہ نکلوانا۔ــ انفاسَہٗ: سانس روکنا، دم سادھنا۔ رَدّ جمع رُدُوْد: واپسی، بحالی، بازرسی، واگزاشت، واپس دی ہوئی رقم، خرچ کی ہوئی رقم کی ادائگی، ادائگی، بدلہ، کراہت، روکنا، ٹالنا، رد، تردید، تکذیب، انکار، استرداد، نامنظوری، جواب، رد، (روشنی کا) انعکاس، تردید، تغلیط۔ــ اِلی: کی طرف نسبت۔ رَدُّ الفِعْل ردعمل۔ رَدُّ الاعتبار: آبادکاری۔ رَدًّا علی کے جواب میں۔ اَخْذ و رَدّ: بحث، مباحثہ، جھگڑا، حجت، مناظرہ۔ رَدَّۃ: بدصورتی، بھونڈاپن، گونج، صدائے بازگشت، انعکاس، بھوسا، بورا، چوکر۔ رِدَّۃ: ارتداد، الحاد، مذہب سے برگشتگی۔ــ عن الاسلام: اسلام سے برگشتگی، ارتداد۔ اَرَدّ: زیادہ نفع بخش، زیادہ مفید، زیادہ منفعت بخش۔ ــــ (علی): (کیلئے)۔ مَرَدّ: حقیقت جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی جا سکے، اصل عنصر یا سبب، استرداد، ازالہ، گھن، کراہت، سنگت کی مناجات، بائبل کی تلاوت کے بعد کا مناجاتی نغمہ (مسیحیت میں)۔ کَانَ علی دَرَدِ لِسانِہ: ہمیشہ کسی کے لبوں پر ہونا، کسی کا باقاعدہ فقرہ ہونا۔ تَرْدَاد: اکثر دہرانا، اکثر آنا جانا، آمدورفت۔ تَرْدِیْد: دہرانا، بار بار دہرانا۔ تَرَدُّد: اکثر آنا جانا، آمدورفت، لہروں کی فی ثانیہ تعداد، تعدد امواج (frequency)، ہچکچاہٹ، پس وپیش، تذبذب، بے استقلالی، جھجک، بیدلی، غیر آمدگی۔ اِرْتِدَاد: پسپائی، پیچھے ہٹنا، حرکت معکوس، پیچھے کی طرف حرکت، مراجعت، انحطاط، زوال، تنزل، پستی کی طرف میلان، دستبرداری، قطع تعلق، بے وفائی، روگردانی، ساتھ چھوڑ دینا، مذہب سے برگشتگی، ارتداد، الحاد۔ ارتداد عن الاسلام: اسلام سے ارتداد، برگشتگی۔ کَارْتِدَادِ الطرف: پلک جھپکتے میں، ابھی، ایک منٹ میں۔ اِسْتِرْدَاد: بازیابی، واپسی کا دعوی، پشت پناہی، حمایت، تائید، بازیافت، اصلاح، تلافی، الٹ پھیر، منسوخی، واپسی، کسی حساب بنک وغیرہ سے) روپیہ نکلوانا۔ مَرْدُوْد پیداوار، نفع، منافع، آمدنی۔ مُرْتَدّ ابن الوقت، غدار، مرتد۔

ردا: رَدَأَ ـ رَدْأً الحائِطَ: دیوار کو ٹیک لگانا۔ــ الرجلَ: کی مدد کرنا۔ اَرْدَأَ الحائِطَ: دیوار کو ٹیک لگانا۔ــ فلاناً: کسی کی پہلی حالت برقرار رکھنا۔ تَرَادَأَ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ الرِدْء جمع اَرْدَاء: مددگار، مدد۔

۲۔ رَدَأَ ـ رَدْأً ہٗ بحجر: کو پتھر مارنا۔

۳۔ رَدُؤَ ـ رَدَاءَۃً: خراب ہونا۔ صفت: رَدِیٌٔ جمع اَرْدِیَاء و اَرْدِنَاء۔ اَرْدَأَ: خراب کام کرنا یا بری چیز تک پہنچنا۔ــ ہٗ: کو خراب کرنا۔

۴۔ اَرْدَأَ السترَ: پردہ لٹکانا۔ــ فلاناً: کسی کو تسکین دینا۔

۵۔ اَرْدَأَ ہٗ علی مِائَۃٍ: کسی کو سو سے زیادہ دینا۔ الرِدْء جمع اَرْدَاء: بوجھ کے ایک طرف کا بھاری حصہ جو جانور پر لادا جاتا ہے۔

○ رَدَأَ ـ رَدْأً ہ: دیوار کو ٹیک لگانا، سہارا دینا، کے ساتھ کھبا کھڑا کرنا، تھامنا، سنبھالنا، تھونی لگانا۔ رِدْء جمع اَرْدَاء: سہارا، پشتہ، حمایت، پشت پناہ، مدد، مددگار۔ رَدُؤَ ـ رَدَاءَۃً: خراب ہونا۔ تَرَدَّأَ: خراب ہوجانا، بگڑ جانا۔ رَدِیٔ جمع اَرْدِیَاء: خراب، برا، کمینہ، ذلیل، حقیر، خبیث، بدکار، شریر، بدطینت، کینہ پرور، عیبی، نااہل، پاپی، بداعمال، حرام زادہ، بد باطن، حاسد، بدخواہ۔ رَدِیُٔ السُّمْعَۃِ: بری شہرت والا۔ اَرْدَأ: زیادہ خراب، زیادہ برا، زیادہ بداعمال، زیادہ بدکار، زیادہ شریر۔ رَدَاءَۃ: خرابی، بدکاری، بداعمالی، فسق و فجور، بدطینتی، بدخصالی، بدباطنی، بدخواہی، حسد۔

ردب: تَرَدَّبَ ہٗ: سے مہربانی وملاطفت کرنا۔ الرَدْب: غیر نافذہ گلی یا راستہ۔ الاِرْدَب جمع اَرَادِب: ۲۴ صاع کا بڑا پیمانہ۔ صاع ۴ اَمداد کا ہوتا ہے۔ نالی جس میں پانی بہتا ہے۔ الاِردبَّۃ: بڑی پختہ اینٹ کی نالی، گندا نالہ، بدرو، موری، چوبچہ، جوہڑ۔

○ اِرْدَب: (آج کل عام طور پر اَرْدَب تلفظ کیا جاتا ہے)۔ جمع اَرَادِب: خشک اشیاء ماپنے کا ایک پیمانہ۔ اِرْدَبَّۃ: گڑھا جس میں گندہ پانی جمع رہتا ہے، گندی نالی، پاخانے کی موری۔

ردح: ۱۔ رَدَحَ ـ رَدْحًا: برقرار رہنا، ثابت قدم رہنا۔ الرَدَح: لمبا عرصہ، لمبی مدت۔ کہا جاتا ہے: اَقَامَ رَدَحًا من الدھر: وہ عرصہ دراز مقیم رہا۔ الرَدَاح جمع رُدُح: بڑا درخت، بڑا پیالہ، لشکر جرار۔ــ من الکباش: بڑی چکی والا دنبہ۔

۲۔ رَدَحَ ـ رَدْحًا الشیءَ: کو زمین پر ہموار پھیلانا۔ رَدَّحَ الشیءَ: کو پھیلا کر زمین کے ساتھ ہموار کرنا۔ الرُدْحَۃ: وسعت، چوڑی اور کھلی جگہ۔ المُرْتَدَح: وسعت، کشادگی، گنجائش۔

۳۔ رَدَحَ ـ رَدْحًا البیتَ: گھر کو گاڑھے گارے سے لیپنا۔ اَرْدَحَ البیتَ: گھر کو گاڑھے گارے سے لیپنا، گھر کے پچھلے حصہ کا پردہ لٹکانا۔ الرُدْحَۃ: گھر کے پچھلے حصہ کا پردہ۔ رُدْحَۃُ الصائِد: وہ پتھر جو شکاری اپنے مکان کے اردگرد گاڑتا ہے۔ الرَدَاح جمع رُدُح: تاریکی۔ الرداحَۃ و الرِداحَۃ: بجو کے شکار کے لئے تیار کردہ مکان۔

۴۔ الرَدْح: ہلکا درد۔

○ رَدَح: طویل عرصہ یا مدت۔ رَدَحًا من الدھر: عرصہ دراز تک۔

ردخ: رَدَخَ ـ رَدْخًا راسَہٗ: کا سر توڑنا۔

ردس: ۱۔ رَدَسَ ـ رَدْسًا القومَ: لوگوں کو پتھر سے مارنا، پتھر مارنا۔ رَادَسَ ہٗ: ایک دوسرے کو پتھر سے مارنا، پتھر مارنا۔ المِرْدَاس و المِرْدَس: وہ پتھر جو کنویں میں یہ معلوم کرنے کے لئے ڈالا جائے کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔

۲۔ رَدَسَ ـ رَدْسًا الحائِطَ: دیوار کو گرانا، مسمار کرنا۔ ــ الارضَ: زمین کو ہموار کرنا۔ ــ بالشیءِ: کسی شئے کو لیجانا۔ــ الحجر بالحجر: پتھر کو پتھر سے توڑنا۔ــ الرجُلَ: کو ذلیل کرنا۔ تَرَدَّسَ من مکانہ: اپنی جگہ سے گر پڑنا۔ المِرْدَس و المِرْدَاس: پتھر توڑنے کا آلہ (ہتھوڑا)، سر۔

○ رَدَسَ ـ رَدْسًا ہ: کو مسلنا، پیسنا، کچلنا، مغلوب کرنا، پامال کرنا، (زمین) کو ہموار بیلنا، کو کچل کر ہموار کرنا۔

ردع: ۱۔ رَدَعَ ـ رَدْعًا ہٗ عن کذا: کو سے روکنا ہٹانا۔ تَرَادَعَ القومُ: ایک دوسرے کو باز رکھنا۔ اِرْتَدَعَ: رکنا، ہٹنا، باز رہنا۔ الرَدْع (مص): گردن۔ کہا جاتا ہے: رکب فلانٌ رَدْعَہٗ: وہ منع کرنے پر بھی باز نہ آیا۔ رکب البعیرُ رَدْعَہٗ: گر کر اونٹ کی گردن اس کے پیٹ میں گھس گئی۔ المِرْدَع: ناکام لوٹنے والا۔

۲۔ رَدَعَ ـ رَدْعًا السھمَ: تیر کے پھل کو بیٹھ جانے کے لئے زمین پر مارنا۔ کہا جاتا ہے: اخذہ فردع بہ الارضَ: اس نے اسے زمین پہ دے مارا، پچھاڑ دیا۔ رُدِعَ بہ: پچھاڑا جانا۔ اِرْتَدَعَ السھمُ: تیر کا نشانہ پر لگ کر ٹوٹ جانا۔ الرَدِیع: پچھاڑا ہوا۔ سھمٌ رَدِیع و مِرْدَع: وہ تیر جس کا پھل گر گیا ہو۔

۳۔ رَدَعَ ـ رَدْعًا ہٗ بالشیءِ: کو کسی شئے سے تھیڑنا۔ رُدِعَ رَدْعَۃً: سہم جانا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جانا۔ رَدَّعَ ہٗ بالزعفران: کو زعفران میں لت پت کرنا۔ تَرَدَّعَ: لت پت ہونا، تھڑنا۔ اِرْتَدَعَ بالطیب:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

خوشبو میں لت پت ہونا۔ الرَّدْع (ن): زعفران، جسم میں خوشبو کا اثر۔ قمیصٌ رادِعٌ: خوشبو کے اثر والی قمیص۔ الرُّداع: جسم میں خوشبو کا اثر۔ الرِداع: کیچڑ، پانی۔ ثوبٌ رَدِیع: زعفران میں رنگا ہوا کپڑا۔ المِرْدَع: وہ شخص جس کے جسم میں خوشبو کا اثر ہو۔

۴۔ الرُّداع: بیماری کا دوبارہ ظہور۔ المِردَع: پست، پست قد۔

○ رَدَعَ ـَ رَدْعًا ہٗ عن: کو سے دور رکھنا، روکنا، باز رکھنا۔ اِرْتَدَعَ عن: سے دور رکھا جانا، سے روکا جانا، باز رکھا جانا۔ رَادِع: باز رکھنے والا، سد راہ ہونے والا، جمع رَوَادِع: مانع، سد راہ، باز رکھنے والا، رکاوٹ، مزاحمت، پابندی، قید، بندش، روک، روک تھام، دبا ہوا جذبہ۔

ردغ ۱۔ رَدَغَ ـَ رَدْغًا تِ السماءُ: آسمان کا زمین کو صرف تر کرنے کے لائق پانی برسنا۔ اَرْدَغَ المکانُ: جگہ کا بہت کیچڑ والی ہونا۔ صفت: رَدِغ۔ اِرْتَدَغَ: کیچڑ میں گرنا۔ الرَدْغ و الرِداغ: کیچڑ، گارا۔ الرَدْغَة والرَدَغَة جمع رَدْغ و رَدَغ و رِداغ و رَدَغات: کیچڑ، سخت گارا، سخت کیچڑ۔ ماءٌ رَدَغَة: مٹی ملا پانی۔

۲۔ رَدَغَ ـَ رَدْغًا به الارضَ: کو زمین پر گرانا۔ الرَدِیغ: پچھاڑا ہوا۔

۳۔ الرَدِیغ: احمق، بیوقوف۔ المَردَغَة جمع مَرَادِغ: گلے اور ہنسلی کی ہڈی کے درمیان کا حصہ، خوش منظر باغ۔

○ رَدْغَة: گارا، دلدل، پتلی کیچڑ، کیچڑ۔

ردف ۱۔ رَدِفَ ـَ رَدْفًا ہٗ: کے پیچھے ہونا۔ ــ لہ: کے پیچھے سوار ہونا، پیچھے بیٹھنے والا ہونا۔ رَدِفَ ـُ رَدْفًا لہ: کے پیچھے ہونا، کے پیچھے سوار ہونا، کے پیچھے بیٹھنے والا ہونا۔ رادَفَ ہٗ: کسی سوار کے پیچھے سوار ہونا۔ کہا جاتا ہے: دابّةٌ لاتُرادِفُ: وہ جانور جو دوسرے سوار کو نہ بٹھائے۔ اَرْدَفَ: پے در پے ہونا۔ ــ ہٗ: کو اپنے ساتھ سوار کرنا۔ کہا جاتا ہے: دابّةٌ لاتُرْدِفُ: وہ جانور جو دوسرے سوار کو بیٹھنے نہ دے۔ ــ لہ: کے بعد آنا۔ ــ الشیءَ بالشیءِ و علیہ: کسی چیز کو کسی چیز کے پیچھے لگانا۔ آپ کہتے ہیں: اَرْدَفْتُ خَیلاً علی خَیلٍ لِــی: میں نے گھوڑوں کے پیچھے اپنے گھوڑے لگا لئے۔ تَرَدَّفَ ہٗ: کے پیچھے سوار ہونا۔ تَرادَفَا: ایک دوسرے کی پیروی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا۔ ــ تِ الکلماتُ: کلمات کا معنی میں آپس میں مشابہ ہونا۔ اِرْتَدَفَ ہٗ: کے پیچھے ہونا، کو اپنے پیچھے سوار کرنا۔ ــ العدوَّ: دشمن کو پیچھے سے پکڑنا۔ اِسْتَرْدَفَ ہٗ: کسی سے پیچھے سوار ہونے کے لئے کہنا۔ الرِدْف جمع اَرْداف: ہیرو، سوار کے پیچھے سوار، کام کا نتیجہ، ہر شے کا آخر۔ (فلک): النسر الواقع (ایک ستارے کا نام) کے قریب ایک ستارے کا نام۔ ــ فی الجاهلیة: زمانہ جاہلیت میں بادشاہ کا وہ ہم جلیس جو اس کے بعد پیتا اور لڑائی میں اس کا قائم مقام ہوتا تھا اور بادشاہ کی فوج سے واپسی پر مال غنیمت کا چوتھائی حصہ لیتا تھا۔ ــ من الدابّة: جانور کا پچھلا حصہ۔ الرِدْفان: رات اور دن۔ الرَدِیف جمع رِداف و رُدَفاء: سوار کے پیچھے دوسرا سوار: النسر الواقع (ایک ستارے کا نام) کے قریب ایک ستارے کا نام۔ (ا ع) فوجی جسے ضرورت کے وقت تک فارغ رکھا جائے۔ الرِداف من الدابّة: جانور کا پچھلا حصہ۔ الرِدافة: بادشاہ کی نیابت۔ الرُدافَی: مددگار افراد۔ کہا جاتا ہے: جاءُوا رُدافَی: وہ یکے بعد دیگرے آئے۔ الرَوادِف: سرینیں، پیچھے رہنے والی قوم۔ (واحد الرادِفة و الرادُوف): کھجور کے پودے جو کھجور کے درختوں پر ہی لگ جائیں۔ کوہان کے پچھلے حصہ میں تہ بہ تہ چربی۔

۲۔ رَدَفَ ـُ رَدْفًا الامرُ القومَ: قوم کو کوئی معاملہ اچانک پیش آنا۔ اَرْدَفَ الامرُ القومَ: قوم کو کوئی معاملہ اچانک درپیش ہونا۔

○ رَدَفَ ـُ رَدْفًا و رَدِفَ ـَ رِدفًا ہٗ/ ہ: کے بعد آنا یا فوراً بعد آنا، کے پیچھے ہونا یا آنا، کا جانشین ہونا۔ رادَفَ ہٗ: کسی جانور پر کسی کے پیچھے سوار ہونا، کسی کا قائم مقام ہونا۔ ــ ہ/ ہ کی جگہ لینا یا لگانا۔ ــ ہ: کے مترادف ہونا۔ اَرْدَفَ ہ کو کسی سوار کے پیچھے بٹھانا۔ ــ ہ ب: کے پیچھے کوئی دوسری چیز لانا، کو سے مکمل کرنا۔ تَرادَفَ: ایک دوسرے کے بعد آنا یا یکے بعد دیگرے آنا، تہ بہ تہ جمنا، کا ڈھیر لگنا، ایک قطار بنانا۔ ــ علی: کے پاس مل کر جانا، کے پاس بھیڑ لگنا۔ ــ: مترادف ہونا۔ رِدْف جمع اَرْداف: ایک جانور پر سوار کے پیچھے دوسرا سوار، بعد میں آنے والا، بعد کا، اگلا، چوتڑ، سرین، پٹھا، پڑا، کولھا، جانور کا پٹھا۔ الرِدْفان: دن اور رات۔ رِداف: جانور کا پٹھا۔ رَدِیف: پچھلا آدمی، صف میں دوسرا (سابق ترکی سلطنت میں) فاضل فوج، ریزرو فوج۔ رَدِیفَة بردیف کا مؤنث۔ تَرادُف: تسلسل، تواتر، سلسلہ، جانشینی، دوسرے کی جگہ لینا، مترادف ہونا، ہم معنی ہونا۔ مُرادِف: مترادف یا ہم معنی لفظ، ہم معنی، مترادف، معنی میں مطابق، ملتا جلتا، مشابہ، [illegible] ہم معنی، مترادف۔ مُترادفات: مترادف یا ہم معنی الفاظ۔

ردك: رَوْدَكَ ہٗ: کو آراستہ کرنا، خوبصورت کرنا۔ الرَوْدَك: خوش رو (لڑکا) مؤنث رَوْدَكَة۔

ردم ۱۔ رَدَمَ ـِ رَدْمًا الثُلْمَةَ او الباب: رخنہ یا دروازہ بند کرنا۔ ــ ـُ رُدُمًا تِ الشجرةُ: درخت کا خشک ہونے کے بعد سبز و ہرا ہونا۔ رَدِمَ الشیءُ: ہرا ہونا۔ رَدَّمَ الثوبَ: کپڑے میں پیوند لگانا۔ تَرَدَّمَ ثوبَہٗ: کے کپڑے میں پیوند لگانا۔ ــ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ و پرانا ہونا۔ الرَدْم (مص): گری ہوئی دیوار کا ملبہ۔ ــ و الرُدام و المِرْدام: بے خیر چیز۔ الرَدَم جمع رُدُوم: روک، بندش۔ الرَدِیم جمع رُدُم من الثیاب: پرانا کپڑا۔ ثوبٌ مُرَدَّمٌ و مُرْتَدَم: پرانا پیوند لگا کپڑا۔ المُتَرَدَّم: وہ جگہ جہاں پیوند لگایا جائے۔ کہتے ہیں: هل غادر الشعراء من مُتَرَدَّمٍ: کیا پہلے شعراء نے کلام میں کوئی (رخنہ) کمی و خامی چھوڑی ہے کہ پچھلے اس کو پورا کردیں۔ یعنی نہیں ہر پہلو پر وہ کہہ چکے ہیں اب مجال سخن نہیں۔

۲۔ رَدَمَ ـِ رَدْمًا القوسَ: کھینچ کر کمان سے آواز نکالنا۔ ــ البعیرُ: اونٹ کے کچھ چھوٹنا۔ الرَدْم (مص): کمان کی آواز۔ الاَرْدَم جمع اَرْدَمُون: ماہر ملاح۔

۳۔ رَدَمَ ـِ رَدْمًا السحابُ: بادل کا مسلسل چھایا رہنا۔ ــ تِ الحُمّٰی علیہ: پر بخار کا ہمیشہ چڑھا رہنا اور نہ اترنا۔ اَرْدَمَ السحابُ: بادل کا مسلسل چھایا رہنا۔ ــ ت الحُمّٰی علیہ: پر بخار کا ہمیشہ چڑھا رہنا اور نہ اترنا۔ تَرَدَّمَ تِ الخصومةُ: دشمنی کا طوالت پکڑنا۔

۴۔ رَدَمَ ـِ رَدْمًا الشیءُ: چیز کا بہنا۔

۵۔ رَدَّمَ ت الناقةُ علی ولدها: اونٹنی کا اپنے بچہ پر مہربان ہونا۔ تَرَدَّمَ ت الناقةُ علی ولدها: اونٹنی کا اپنے بچہ پر مہربان ہونا۔

۶۔ تَرَدَّمَ ہٗ: کسی کے پیچھے لگ کر اس کی حقیقت کا پتہ لگانا۔ ــ القومُ الارضَ: قوم کا زمین کی پیداوار کو ایک بار پھر کھا لینا۔

○ رَدَمَ ـِ رَدْمًا ہ: (گڑھا، تالاب وغیرہ) کو مٹی سے بھر دینا۔ رَدَّمَ مرمت کرنا، جڑنا۔ اَرْدَمَ علی: کو چھوڑ کر نہ جانا، کسی سے چمٹا رہنا (بیماری کا)۔ تَرَدَّمَ: مرمت کیا جانا۔ ــ ہ کی مرمت کرنا۔ ــ: استعمال شدہ ہونا، پھٹا ہوا ہونا۔ رَدْم: دلدل، تالاب وغیرہ کو مٹی سے بھرنا، روڑے، ملبہ، بند، پشتہ۔ رَدِیم: گھسا پٹا، پھٹا پرانا، فرسودہ، تار تار (کپڑا)۔

ردن ۱۔ رَدَنَ ـُ رَدْنًا الاشیاءَ: چیز کو ترتیب سے اوپر نیچے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چنا ـــــ ت المرأة: عورت کا تکلے پر کاتنا۔ اِرْتَدَنَ
ت المرأةُ: عورت کا تکلہ بنانا۔ الرَّدَن جمع اَرْدَان:
کاتنا، ریشم۔ الرَّادِن (ن): زعفران۔ الأَرْدَان: ایک
سرخ رنگ ریشم۔ المِردَن: تکلا۔ خیط مَرْدُونٌ:
ملایا ہوا ڈورا۔ احمرُ رَادِنِیّ: زردی ملا سرخ۔
۲۔ رَدَنَ ـُ رَدْنًا النارَ: آگ جلانا۔
۳۔ رَدِنَ ـَ رَدَنًا الجلدُ: کھال پر جھریاں پڑنا، سکڑنا۔
۴۔ رَدَّنَ و اَرْدَنَ القمیصَ: قمیص میں آستین لگانا۔ الرُّدْن
جمع اَرْدان: آستین کی جڑ، آستین کا کشادہ حصہ،
عرب اس میں درہم و دینار رکھا کرتے تھے اسی سے
محاورہ ہے ثَقُلَ رُدْنُهُ: وہ مالدار ہو گیا۔
۵۔ اَرْدَنَت الحُمّٰی: بخار طویل ہو جانا۔
۶۔ الرَّدْن: ہتھیاروں کے ایک دوسرے پر گرنے کی آواز۔
المُردِن: تاریک۔ عَرَقٌ مُردِنٌ: بدبودار پسینہ۔
الرُّدَیْنِی: نیزہ، ردینہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ ایک
عورت تھی جو اچھے نیزے بنایا کرتی تھی۔
○ رَدَنَ ـُ رُدُنًا: کاتنا، (بلی کا) خرخر کرنا۔ علی: سے
شکایت یا احتجاج کرنا۔ رُدُن جمع اَرْدَان: آستین۔
رُدَیْنِی: نیزہ (ابتدا میں برتر قسم کے نیزہ کو کہا جاتا
تھا)۔ مِردَان جمع مَرَادِن: تکلا۔
○ رَدَنْجُوت: فراک کوٹ (مردوں کا لمبا کوٹ) شہزادہ
البرٹ۔
رده: رَدَهَ ـَ رَدْهًا فلانًا بحجر: کو پتھر مارنا ــــ
الرجلُ: بہادری یا سخاوت یا کسی اور خوبی کے باعث
قوم پر سرداری کرنا۔ البیتَ: گھر کو بڑا کرنا۔ الرَّدْهَه
جمع رَدْه و رِدَاه و رُدَه: سب سے بڑا گھر، گھر کی
سب سے زیادہ کشادہ جگہ، پہاڑ یا چٹان میں گڑھا جس
میں بارش کا پانی جمع ہو جائے۔
○ رَدْهَة: ہال، بڑا کمرا، بیٹھک، دیوان خانہ، ڈیوڑھی،
پیش دالان۔ رَدْهَةُ الاستقبال: استقبالیہ ہال،
دیوان خانہ، ملاقات کا کمرہ، ڈرائنگ روم۔ رَدْهَةُ
المُحاضرات: لیکچر روم۔
ردی: الرَّدٰی ـِ رَدْیًا و رَدَیَانًا الشيءَ: چیز کو توڑنا۔
ہُ: کو دھکا دینا ــــ ہ بحجر: کو پتھر مارنا ــــ ت
الفرسُ: گھوڑے کا زمین پر سم مارنا۔ رَادَی مُرَادَاةً
عن القوم: کسی قوم کی جانب سے دوسروں پر پتھر
مارنا۔ اَرْدَی الفرسَ: گھوڑے کو سم مارنے دینا۔
الرَّدَاة جمع رَدًی: چٹان۔ المِرْدَی جمع مَرَادٍ:
پتھر توڑنے کا پتھر۔ المَرَادِی: گھوڑوں یا اونٹوں کی
ٹانگیں، گھوڑے جو زمین پر سم ماریں۔ المِرْدَاة جمع
مَرَادٍ: پتھر توڑنے کا پتھر، لڑائی کا چکر۔ طحنته
مرداةٌ طحونٌ: جنگ کی چکی نے اس کو پیس ڈالا۔
المُرْدِيّ جمع مَرَادِی: ملاح کا چپو۔
۲۔ رَدِیَ ـَ رَدْیًا و رَدَیَانًا فی البئر: کنوئیں میں گرنا۔
فلانٌ: اونچے پہاڑ پر سے گرنا۔ رَدِیَ ـَ رَدًی: گرنا،
ہلاک ہونا۔ رَدَّی ہُ فی البئر: کو کنوئیں میں گرانا ــــ
الرجلَ: کو ہلاک کرنا۔ اَرْدَی ہُ فی البئر: کو کنوئیں
میں گرانا ــــ الرجلَ: کو ہلاک کرنا۔ تَرَدَّی فی
البئرِ: کنوئیں میں گرنا۔ الرَّدِی: ہلاک ہونے والا۔
رجل رِدٍ: ہلاک ہونے والا مرد۔
۳۔ رَدَی ـِ رَدْیًا و رَدَیَانًا ت الجاریةُ: لڑکی کا ایک
پاؤں پر اچک اچک کر کھیلتے ہوئے چلنا۔ اِرْتَدَی ت
الجاریةُ: لڑکی کا ایک پاؤں پر اچک اچک کر کھیلتے
ہوئے چلنا۔
۴۔ رَدَی ـِ رَدْیًا و رَدَیَانًا علی الخمسین من عمرہ:
عمر میں پچاس سال سے زائد ہونا۔ اَرْدَی علی
الخمسین: پچاس سے زائد ہونا ــــ مالهُ: کا مال
دار ہونا۔
۵۔ رَدَی ـِ رَدْیًا و رَدَیَانًا فلانٌ: جانا، آپ کہتے ہیں: ما
ادری این رَدَی: میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔
۶۔ رَدَّی الرجلَ: کو چادر اوڑھانا، تلوار لٹکانا۔ تَرَدَّی: چادر اوڑھنا۔
اِرْتَدَی: چادر اوڑھنا، تلوار لٹکانا۔ الرِّداء جمع
اَرْدِیَة: چادر، لبادہ، جبہ۔ (کہا جاتا ہے ھو غَمْرُ
الرِّداءِ: وہ بہت داد و دہش والا ہے۔ خفیفُ
الرِّداء: کم قرض اور کم عیال والا)، تلوار کی پٹی، تلوار،
کمان، عقل، نادانی، باعث زینت، باعث عیب۔
رِداءُ الشمس: سورج کی روشنی ــــ الشباب:
جوانی کی بہار، نکھار۔ الرِّدَاءَة: پوشش، اوڑھنے کا کپڑا۔
المَرْدَاة و المِرْدَی جمع مَرَادٍ: بڑی چادر، ازار۔
۷۔ رَادَی مراداةً الرجلَ: کو پھسلانا، مدارات سے پیش
آنا۔
○ رَدِیَ ـَ رَدًی: ہلاک ہونا، تباہ ہونا۔ رَدَّی ہ: کو زمین پر
گرانا، پٹخنا، کو زوال پذیر کرنا، زوال سے دوچار کرنا۔
اَرْدَی ہ: کو زمین پر گرانا، پٹخنا، کو زوال آشنا کرنا، کو تباہ
و برباد کرنا، کو مار گرانا، کو قتل کرنا۔ اَرْدَاہ قتیلاً: کو مہلک
ضرب سے مار گرانا۔ تَرَدَّی: گرنا، الٹ کر گرنا، زوال
پذیر ہونا، کم ہونا، بد سے بدتر ہونا، بگڑنا، ابتر ہونا، معیار
سے گرنا۔ ب: (کچھ) پہننا، (کپڑا) پہنا۔ اِرْتَدَی
ہ: (لباس، ٹوپی، ہیٹ، پگڑی وغیرہ) پہننا، (میں)
ملبوس ہونا، (کو) پہنے ہوئے ہونا۔ اِرْتَدَی ملابسَهُ:
اپنے کپڑے پہننا، کپڑے پہننا۔ رَدًی: تباہی،
بربادی۔ رِداء جمع اَرْدِیَة: چادر، لبادہ، چوغہ، چغا،
عبا، عورتوں کا لباس، فراک، گون، پوشاک، لباس،
جوڑا۔ رِداءُ المساء: شام کا گون۔ مُتَرَدٍّ: ملبوس،
لباس پہنے ہوئے۔
رذ: رَذَّ ـِ رَذَاذًا ت السماءُ و اَرَذَّت السماءُ: آسمان
کا پھوار برسانا ــــ ت القِربةُ: مشک کا پانی بہنا۔
الرَّذاذ: پھوار۔
○ رَذَّتِ السماءُ ـِ رذاذًا و اَرَذَّتِ السماءُ: بوندا
باندی ہونا، ترشح ہونا، پھوار پڑنا۔ رَذاذ: بوندا باندی،
پھوار۔
رذل: الرَّذُلَ ـُ و رَذِلَ ـَ رَذَالَةً و رُذُولَةً: حقارت کے
قابل ہونا، قبیح ہونا، برا ہونا، صفت رَذْل جمع
اَرْذَال و رُذَال و رُذُول و رَذْلُون و رذیل جمع
رُذَلاء و رِذال۔ رَذَلَ ـُ رَذْلاً ہُ: کو رذیل کرنا۔
اَرْذَلَ: برا فعل کرنا، کمینوں کا ساتھی ہونا ــــ ہُ: کو
رذیل و حقیر کرنا۔ الرُّذال: رذیل، حقیر، کمینہ۔ الاَرذَل
جمع اراذِل و اَرْذَلُون: اسم تفضیل: زیادہ گھٹیا،
زیادہ ردی۔ المُرْذِل: رذیل ساتھیوں اور گھٹیا جانوروں
والا۔ الرَّذِیلَة جمع رَذَائِل: برائی، کمینہ پن۔
۲۔ رَذَلَ ـُ رَذْلاً ہُ: کو ناپسند کرنا، برا سمجھنا۔ اَرْذَلَ ہُ: کو
برا سمجھنا، رد کرنا ــــ الدراهمَ: درہموں کو کھوٹا بتا کر
واپس کر دینا۔ اِسْتَرْذَلَ ہُ: کو حقیر سمجھنا۔ الاَرْذَل جمع
اراذِل و اَرْذَلُون: ردی۔ الرُّذال و الرُّذَالَة: چیز
کا ردی و ناکارہ حصہ۔ رُذالَةُ کلِّ شیءٍ: ہر چیز کا
ناقص حصہ۔
○ رَذِلَ ـَ و رَذُلَ ـُ رَذَالَةً: کمینہ ہونا، گھٹیا ہونا، پست
ہونا، رذیل ہونا، خراب ہونا، گندا ہونا، پاجی ہونا، حقیر
ہونا، فرومایہ ہونا، قابل نفرت ہونا، خوار ہونا۔ رَذَلَ ـُ
رَذْلاً ہ/ ہا: کو مسترد کرنا، ترک کر دینا، بے کار سمجھ
کر پھینک دینا، برطرف کرنا، ہٹانا، کو اپنانے سے انکار
کرنا، سے قطع تعلق کرنا، کو ماننے یا پہچاننے سے انکار
کر دینا، سے بے تعلقی ظاہر کرنا، سے نفرت کرنا، کو حقیر
جاننا، کو حقارت سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، کو
ناپسند کرنا، کو گھٹیا یا برا جاننا۔ اَرْذَلَ ہ/ ہا: کو مسترد کرنا،
ترک کرنا، بے کار سمجھ کر پھینک دینا، کو اپنانے سے
انکار کرنا، سے قطع تعلق کرنا، کو نہ ماننا، کو ماننے یا
پہچاننے سے انکار کر دینا، سے بے تعلقی ظاہر کرنا۔
اِسْتَرْذَلَ ہ/ ہا: کو نیچا، چھوٹا یا پست سمجھنا، فرومایہ، ذلیل
یا کمینہ سمجھنا۔ رَذْل: انکار، نامقبولیت، ناپسندیدگی،
نامنظوری، قطع تعلق، دستبرداری۔ استرداد۔ (جمع
رُذُول و اَرْذَال): نیچا، کمینہ، برا، فرومایہ، رذیل،
سفلہ، حقارت آمیز، قابل مذمت، لائق مذمت۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رَذِیل جمع رُذَلاء: نیچا، کمینہ، ذلیل، برا، حقیر، ذلیل، نیچ، خسیس، گھٹیا، خبیث، خراب، سفلہ، پاجی، قابل نفرت، خوار، بگڑا ہوا۔ رَذالۃ: گراوٹ، پستی، کمینگی، برائی، بدکاری، سیاہ کاری، بدچلنی، بگاڑ، کھوٹ۔ رَذِیلۃ جمع رَذائِل: بدچلنی، بگاڑ، کھوٹ، سیاہ کاری، عیب، نقص، خامی، بری عادت۔ مَرْذُول: بگڑا ہوا، فرومایہ، پاجی، کمینہ، حقیر، ذلیل، خبیث، برا، بداعمال، بدکار، شریر، مضر، ناکارہ، خراب، نقصان رساں۔

رذم ا۔ رَذَمَ ـُ رَذْمًا و رَذَمانًا و رَذِمَ ـَ رَذَمًا الإناءُ: برتن کا بھر کر چھلک جانا، صفت: رَذِمٌ۔ اَرْذَمَ الإناءُ: برتن بھر کر چھلک جانا۔ ــ علی الخمسین من عمرہ: عمر میں پچاس سال سے زائد ہونا۔ الرذوم جمع رُذُم و رُذُم چھلکتا ہوا لبریز پیالہ، ہر بہنے والی چیز۔

۲۔ الرَذْم و الرُذام: بے مروت، کمزور شخص۔ الرَذَم والرَذَمان من الناس: بکھری ہوئی جماعت، چھوٹی جماعت۔ کہا جاتا ہے: رَأَیتُ رَذَمًا من الناس: میں نے لوگوں کی ایک بکھری ہوئی جماعت دیکھی۔ کان فی رَذَمانٍ من الناس: وہ ایک چھوٹی جماعت میں تھا۔

رذی ا۔ رَذِیَ ـَ رَذاوۃً: بیماری سے نڈھال ہونا۔ صفت: رَذِیّ جمع رُذاۃ مونث: رَذِیّۃ۔ اَرْذی ہُ: کو نڈھال کر دینا۔ اُرْذِیَ: بیماری سے نڈھال ہونا۔ الرَذِیّ: کمزور، لاغر، دبلا۔

۲۔ اَرْذی ہُ: کو پھینکنا صفت مفعولی: مُرْذًی۔

رزّ ا۔ رَزَّ ـُ رَزًّا ت الجرادۃُ: ٹڈی کا انڈے دینے کے لئے دم کو زمین میں چبھونا۔ رَزَّہٗ: کو نیزہ مارنا۔ ــ السهمَ فی الحائط: تیر کو دیوار میں گاڑنا۔ ــ البابَ: دروازہ میں کنڈی لگانا۔ اَرَزَّتِ الجرادۃُ: ٹڈی کا انڈے دینے کے لئے دم کو زمین میں چبھونا۔ اِرْتَزَّ السهمُ فی الحائط: تیر کا دیوار میں گڑ جانا۔ ــ البخیلُ عند المسالۃ: سوال کے وقت بخیل کا کنجوسی کرنا۔ الرِّزَّۃ جمع رُزَز و رِزاز و رِزّات: لوہے کا کنڈا جس میں تالا لگایا جاتا ہے، کھونٹی جس کو گھوڑے وغیرہ باندھنے کے لئے زمین یا دیوار میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ (طب) پیٹھ کا درد۔ الاُرْزِیز نشانہ میں پیوستہ تیر۔

۲۔ رَزَّ ـِ رَزًّا ت السماءُ: آسمان کا گرجنا۔ الرِزّ والرَزِیز: بادل کی گرج، دور کی آواز، پیٹ کی گڑگڑاہٹ، آواز۔ الرَزّاز: سیسہ۔ رَزِیزُ الرعد: گرج کی آواز۔ الاُرْزِیز: کپکپی، لرزہ، چھوٹے اور لمبی آواز والا ٹیلیفون۔

۳۔ رَزَّزَ الورقَ: کاغذ پر پالش کرنا۔ ــ الامرَ: کسی امر کو ٹھیک کرنا۔

۴۔ الرُزّ والاُرْزّ (یونانی لفظ): چاول۔ الرَزِیز (ن): رنگ میں کام آنے والی ایک قسم کی گھاس۔ الرَزّاز: چاول بیچنے والا۔ المُرَزَّز من الطعام: چاولوں سے تیار کیا ہوا کھانا۔ المَرَزَّۃ: چاول اُگنے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں چاول کاشت کیا جائے یا بکثرت پیدا ہو۔

○ رُزّ و اُرْزّ: چاول۔ رَزَّ ـُ رَزًّا ہ: کو ٹھونکنا، میں ڈالنا، داخل کرنا۔ رَزَّزَ ہ: کو پالش کرنا، صیقل کرنا، جلا دینا۔ اَرَزَّ: ٹیلیفون کرنا۔ رَزَّۃ جمع رَزّات: کنڈا، کنڈے کا پیچ۔ اِرْزِیز: ٹیلیفون۔

رزأ: رَزَأَ ـَ رَزْءًا و رُزْءًا و مَرْزِئَۃً الرجلَ مالَہٗ: سے کچھ حاصل کرنا، کو کم کرنا، کم دینا۔ ــ الرجلَ: سے کچھ بھلائی حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے: ہو یُرْزَأُ: وہ سخی ہے، لوگوں کو اسی کا فیض پہنچتا ہے۔ رَزِیَٔ ـَ رُزْءًا الرجلَ: سے کچھ خیر و بھلائی حاصل کرنا۔ اِرْتَزَأَ الرجلَ: سے کچھ بھلائی حاصل کرنا۔ ــ ہُ الشیءَ: کو کم چیز دینا۔ ــ الشیءُ: کم ہونا۔ الرُزْء جمع اَرْزاء و الرَزِیئۃ و الرَزِیَّۃ جمع رَزایا: بڑی مصیبت۔ المُرَزَّأ جمع مُرَزَّؤُون: کریم، فیاض، سخی۔ المُرَزَّؤُون: وہ قوم جس کے چیدہ اشخاص مر چکے ہوں۔ المَرْزِئَۃ: بڑی مصیبت۔

○ رَزَأَ ـَ رَزْءًا ہ / فی: کو سے محروم کرنا۔ رُزِئَ نقصان اٹھانا۔ ــ ب: کو گنوانا، کھونا، کھو دینا، گم کرنا یا گم کر دینا، سے دکھ، تکلیف پہنچنا۔ رُزْء جمع اَرْزاء: بھاری نقصان، سخت ضرر، مصیبت، آفت، تباہی۔ رَزِیئۃ و رَزِیّۃ جمع رَزایا: بھاری نقصان، سخت ضرر و صدمہ، مصیبت، آفت، تباہی۔

رزب: رَزَبَ ـُ رَزْبًا ہُ: سے چمٹے رہنا۔ الاِرْزَب: چھوٹا، ضخیم۔ المرزاب جمع مَرازِیب: پرنالہ، لمبی کشتی۔ المَرْزُبۃ: قیادت، رہنمائی، میر مجلسی، عہدہ صدارت، منصب و عہدہ صدارت، صوبیداری کا عہدہ۔ المِرْزَبۃ و المِرْزَبَّۃ جمع مَرازِب و الاِرْزَبّۃ: لوہے کی سلاخ۔ المَرْزُبان جمع مَرازِبۃ: اہل فارس کا رئیس یا صوبیدار۔

○ رَزَبَ ـُ رَزْبًا ہ: سے چمٹے رہنا، کو نہ چھوڑنا، کو ترک کرنے سے انکار کرنا۔ مِرْزَبّۃ جمع مَرازِب: آہنی سلاخ۔ مِرْزاب جمع مَرازِیب: پرنالہ، منہ کی شکل کا پرنالہ، چھت کی نال کا پرنالہ۔

رزح ا۔ رَزَحَ ـَ رَزْحًا و رُزُوحًا و رَزاحًا الجملُ: اونٹ کا لاغری یا تھکن کی وجہ سے زمین پر گر کر دراز ہو جانا [illegible] صفت: [illegible] ــ الرجلُ: کمزوری کی وجہ سے ہاتھ سے چیز نکل جانا۔ ــ العنبَ: گرے ہوئے انگور چننا۔ ــ و تَرازَحَت حالُہٗ: بدحال ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں: رَزَحَ المریضُ: بیمار کا کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکنا اور اسی طرح پیدل چلنے والے کا تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ نہ سکنا۔ رَزَّحَ الناقۃَ: اونٹنی کو لاغر کرنا۔ اَرْزَحَ العنبَ: گرے ہوئے انگور چننا۔ اِبِلٌ رُزَّحٌ و رَزْحی و رَزاحی و رَوازِحُ: کمزور لاغر اونٹ۔ المَرْزَح: ہموار زمین، دور کی مسافت۔ المِرْزَح و المِرْزَحۃ جمع مَرازِح: انگور کی بیل زمین سے اونچی کرنے کے لئے استعمال کی جانے والی لکڑی۔ المِرْزاح من الابل جمع مَرازِیح: بہت لاغر اونٹ جو حرکت نہ کر سکے۔

۲۔ رَزَحَ ـَ رَزْحًا و رُزُوحًا و رَزاحًا الرجلَ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔

○ رَزَحَ ـَ رُزُوحًا و رُزاحًا و رَزاحًا: (بوجھ تلے) دب جانا، گر پڑنا، ڈھیر ہو جانا، زمین پر آ رہنا۔ ــ (خاموشی) کا غیر یقینی حالت میں رہنا۔ رازَحَ: سہنا، برداشت کرنا، جھیلنا۔

رزخ: رَزَخَ ـَ رَزْخًا ہُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔

رزد: الرَزْدَق (فارسی لفظ): لوگوں کی صف، کھجوروں کی قطار۔ الرُزْداق جمع رُزْداقات و رَزادِیق: دیہات اور ان کے ارد گرد کی اراضی۔

رزغ: اَرْزَغَ الماءُ: پانی کا کم ہونا۔ ــ المکانُ: کسی جگہ کا کیچڑ والی ہونا۔ ــ المحتفِرُ: کھودنے والے کا تری تک پہنچنا۔ ــ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو صرف تر کر دینا۔ الرَزَغ: رطوبت۔ الرُزُغ و الرازِغ: کیچڑ یا دلدل میں دھنسا ہوا۔ الرَزَغۃ جمع رَزَغ و رِزاغ: پتلا کیچڑ، دلدل۔

۲۔ رازَغَہٗ: کو دھوکا دینا، فریب دینا۔ اَرْزَغَ الرجلَ: کو عیب سے آلودہ کرنا۔ ــ فی فلان: کو بہت ایذا دینا، سے حقارت کرنا، پر عیب لگانا، طعن کرنا۔ اِسْتَرْزَغَہٗ: کو کمزور جاننا۔

○ مُرْزِغ: کیچڑ سے بھرا ہوا، دلدلی، کیچڑ میں لت پت۔

رزف ا۔ رَزَفَ ـِ رَزِیفًا الیہ: کی طرف آگے بڑھنا۔ ــ الجملُ: اونٹ کا دوڑنا۔ ــ الامرُ: معاملہ کا قریب ہونا۔ رَزَّفَ الیہ: کی طرف آگے بڑھنا۔ ــ الجملُ: اونٹ کا دوڑنا۔ اَرْزَفَ الیہ: کی طرف آگے بڑھنا۔ ــ الجملَ: اونٹ کو دوڑانا۔ ــ الناقۃَ: اونٹنی کو تیز دوڑانا۔ اُرْزِفَ القومُ: قوم کا جھٹ پٹ شکست کھا جانا۔ ناقۃ رَزُوف: لمبی ٹانگوں والی اور

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کشادہ قدم رکھنے والی اونٹنی۔رَزّافاتُ البلد: شہر کے قریب جگہیں۔

۲وَرَزَفَ۔رَزِیفًا و رَزَّفَ و اَرْزَفَ الجملُ: اونٹ کا بلبلانا۔

رزق: اوَرَزَقَ۔رَزْقًا ہٗ: کو رزق پہنچانا، دینا۔کہا جاتا ہے رَزَقَہُ اللّٰہُ الغِنی: اللہ تعالیٰ نے اُسے دولت دی۔رُزِقَ: روزی پانا، رزق پانا، خوش قسمت ہونا۔اِرْتَزَقَ ہٗ: سے رزق طلب کرنا۔۔۔ الجندُ: فوج کا رسد پانا۔اِسْتَرْزَقَ ہٗ: سے رزق طلب کرنا، روزی مانگنا۔الرِزْق جمع اَرْزَاق: روزی، بارش۔الرزق الحسنُ: بلامحنت ومشقت ملنے والی روزی۔۔۔ والرَّزْقَة جمع رَزَقات: سپاہیوں کی رسد۔کہا جاتا ہے اَخذتُ رَزْقَةَ ھذا الشھر او ھذا العام: میں نے اس ماہ یا سال کا رسد لیا۔الرَّزّاق: رازق، روزی دینے والا (یہ صرف باری تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے)۔المَرْزُوق (مفع): خوش بخت۔المُرْتَزَق (مفع): جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔المُرْتَزِقَة: اپنی رسد پانے والے لوگ۔(اع): بھاڑے یا کرائے کے سپاہی۔

۲الرَّازِقی: کمزور، ایک قسم کا لمبا سفید انگور، شراب۔الرَّازِقِیّة: شراب، کتان کے سفید کپڑے۔

◌ رَزَقَ ۔ رزقًا ہٗ: (اللہ تعالیٰ کا) کسی کو روزی کے وسائل دینا۔۔۔ ہ ہٗ: کو کچھ عطا کرنا، ودیعت کرنا، کو کوئی خوش نصیبی عطا کرنا۔۔۔ ہ مولودا: کو بچہ عطا کرنا۔رُزِقَ ہ: کچھ ودیعت کیا جانا۔۔۔: رہنا، زندگی بسر کرنا۔اِرْتَزَقَ: روزی کمانا۔۔۔ من: پر یا سے زندگی بسر نا۔اِسْتَرْزَقَ: اپنی روزی تلاش کرنا، روزی کے ذرائع مانگنا۔رِزْق جمع اَرْزَاق: روزی، ذریعہ آمدنی، ذریعہ معاش، معاش، روزانہ کی دال روٹی، کھانا، خوراک، غذا، عطیہ، خدا کی رحمت، جائداد، دولت، آمدنی، تنخواہ۔اَرْزَاقٌ ناشفة: خشک راشن، ہنگامی راشن، خشک حصہ رسدی، ہنگامی حصہ رسدی۔اِسْتِرْزَاق: آزاد ذریعہ معاش، روزی، خود پروری۔مَرْزُوق: خدا کی رحمت والا، خوش بخت، اقبال مند، کامران۔مُرْتَزِق: کرایہ پر لیا ہوا، بھاڑے کا ٹٹو، کرایہ پر کام کرنے والا، زرخرید، کرایہ کا، رکھا ہوا۔مُرْتَزِقَة: رکھے ہوئے لوگ، طفیلی لوگ، بھاڑے کے سپاہی۔مُرْتَزَق: روزی کے ذرائع، روزی، ذریعہ آمدنی، ذریعہ معاش، طرز زندگی۔

رزم: اوَرَزَمَ۔رَزْمًا الشیءَ: کو اکٹھا کر کے باندھنا۔رَزَّمَ بالشیء: کو جھپٹ لینا، چھین لینا، لپک کر لینا۔رَزَّمَ الثیابَ: کپڑے اکٹھے باندھ کر گٹھری بنانا۔رَازَمَ بینھما: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔۔۔ فی المطاعم: باری باری کئی قسم کے کھانے کھانا جیسے کبھی دودھ پینا کبھی گوشت کھانا۔المُرَازَمة: دن میں ایک بار کھانا۔الرِّزْمَة من الثیاب و غیرھا جمع رِزَم: کپڑوں وغیرہ کی گٹھری۔المرزمة التوافقیّة (ہ): چار سیدھی لکیروں کا مجموعہ جو کسی نقطہ کو تقسیم کے موافق نقاط سے ملائیں۔۔۔ اللاتوافقیّة (ہ): چار سیدھی لکیروں کا مجموعہ جو کسی نقطہ کو تقسیم کے غیر موافق نقاط سے ملائیں۔المِرْزَم: باندھنے کی چیز جیسے رسی۔

۲وَرَزَمَ۔رَزْمًا علی عدوِّہ: دشمن پر غالب آکر اس کو دبا بیٹھنا۔۔۔ الرجلُ: مرنا۔۔۔ رُزُومًا و رُزَامًا البعیرُ: اونٹ کا لاغری کے باعث اٹھ نہ سکنا۔صفت: رَازِم جمع رُزَّام۔رَزَّمَ القومُ: قوم کا کسی جگہ جم جانا اور وہاں سے نہ ٹلنا۔رَازَمَ الدارَ: گھر میں بہت دیر رہنا۔الرِزَام جمع رُزَّم: سخت آدمی۔اَسَدٌ رَزَامَةٌ و رَزَام: اپنے شکار کو دبا کر بیٹھنے والا شیر۔الرَّزَّام و المُرْزِم: اپنے شکار کو نرغے میں لے کر اس پر غرانے والا شیر۔المُرْتَزَم: کہا جاتا ہے تَرَکْتُہُ بالمُرْتَزَم: میں نے اسے زمین کے ساتھ چپکا دیا۔

۳وَرَزَمَ۔رَزْمَةً الشتاءُ: موسم سرما کا سرد ہونا۔المِرْزَمَان (فلك): بارش کے ستارے۔

۴وَرَزَمَ۔رَزْمًا ت الأُمُّ بالولید: ماں کا بچہ جننا۔

۵لرَزَمَت الناقةُ: اونٹنی کا اپنے بچہ پر ترس کھانا۔۔۔ الرعدُ: بجلی کی کڑک کا سخت ہونا۔اِرْزَامَّ اِرْزِیمامًا: غضبناک ہونا۔غیثٌ رَزِمٌ: بہت بارش جس کی گرج ختم نہ ہو۔الرَّزَمَة: کرخت آواز، بچہ کی آواز، بچے پر پیار آتے وقت منہ کھولے بغیر اونٹنی کے حلق سے نکلی ہوئی آواز۔کہتے ہیں لاخیر فی رَزَمَةٍ لا دِرَّةَ فیھا: یہ اس شخص کے بارے کہا جاتا ہے جو وعدہ وفا نہ کرے یا چاپلوسی کرے مگر اس کے پاس خیر و بھلائی نہ ہو۔اس مقولہ کا معنی ہے: اس اونٹنی کی آواز سے کوئی فائدہ نہیں جس سے دودھ حاصل نہ ہو۔الرَّزِیم: شیر کی دھاڑ، جھاگ۔

◌ رَزَمَ۔رَزْمًا ہ: کا پلندہ بنانا، کی گٹھری باندھنا، کی گٹھیں باندھنا، پوٹ باندھنا، کا بنڈل بنانا، کو تہ کرنا، لپیٹنا۔رِزْمَة جمع رِزَم: بنڈل، گٹھری، گانٹھ، بقچہ، پوٹ، پارسل، پلندہ، پیکٹ، ڈبیہ، (کاغذ کا) رم (ream)۔

رزن: اوَرَزَنَ۔رَزْنًا الشیءَ: چیز کو اٹھا کر اس کے وزن کا اندازہ لگانا۔رَزُنَ۔رَزَانَةً: بھاری ہونا، بوجھل ہونا۔الأَرْزَن (ن): سخت لکڑی والا ایک درخت جس سے چھڑیاں بناتے ہیں۔

۲وَرَزَنَ۔رَزْنًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔المَرْزَن والرِزْن جمع رُزُن و رِزَان و اَرْزَان: بلند جگہ جس میں پانی رکنے کے لئے نشیب ہو۔الرِزْنَة جمع رِزَان: پانی رہنے کی جگہ، دلدلی زمین۔

۳وَرَزُنَ۔رَزَانَةً: سنجیدہ ہونا۔صفت رَزِین مونث رَزَان (مونث کو رزینہ نہیں کہا جاتا) شاعر کہتا ہے: حِصَانٌ رَزَانٌ لا تُزَنُّ بریبةٍ: سنجیدہ گھوڑا جس سے شبہ کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔تَرَزَّنَ فی الأمر او فی مجلسہ: کسی امر یا مجلس میں سنجیدہ اور پکی رائے والا ہونا۔المُرْزِین: ساکن، پختہ رائے والا۔کہا جاتا ہے: ھو رزین الرأی: وہ پختہ رائے والا ہے۔

۴وَارَزَنَ الرجلَ: کا دوست ہونا، کے ساتھ اترنا۔تَرَازَنَا: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔

۵المِرْزَن: کنارہ۔الرَّوْزَنَة جمع رَوَازِن: روشن دان (فارسی لفظ)۔

◌ رَزُنَ۔رَزَانَةً: سنجیدہ ہونا، متحمل، حلیم یا بردبار ہونا، بھاری بھرکم ہونا، پرسکون ہونا، متین ہونا، خاموش ہونا، جذبات پر قابو پائے ہوئے ہونا، ٹھنڈے دل و دماغ کا ہونا۔رَزِین: سنجیدہ، باوقار، خاموش، ٹھنڈے دل و دماغ کا۔رَزَانَة: سنجیدگی، متانت، تحمل، قائم مزاجی و دلجمعی، اطمینان، سکون، اپنے آپ پر قابو، ٹھنڈا مزاج، توازن، طبیعت کا سکون۔

رزی: رَزَیٰ۔رَزْیًا فلانًا: کسی کا احسان قبول کرنا۔اَرْزَیٰ اِرْزَاءً الیہ و اَرْزَیٰ الیہ ظھرہ: کا سہارا لینا، کی پناہ لینا۔

◌ رزیة جمع رزایا: دیکھو رزیئة۔

رس: اوَرَسَّ۔رَسًّا البئرَ: کنواں کھودنا۔الرَّسّ: پرانا کنواں، معدن۔

۲وَرَسَّ۔رَسًّا الشیءَ: کو دھنسانا۔۔۔ المیتَ: میت کو دفن کرنا۔۔۔ رَسًّا و رَسِیسًا و اَرَسَّ السقمُ فی جسدہ: بیماری کا کسی کے جسم میں ڈیرہ ڈال دینا۔الرَّسَّة: مضبوط ستون۔المَرْسُوس: ثابت۔

۳وَرَسَّ۔رَسًّا خبرَھم: کی طرف سے خبر معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔۔۔ لہُ الخبرَ: سے خبر بیان کرنا۔تَرَاسَّ القومُ الخبرَ: ایک دوسرے کو پوشیدگی میں خبر سنانا۔اِرْتَسَّ الخبرُ فی الناس: خبر کا لوگوں میں پھیل جانا۔الرَّسّ (مص): کہا جاتا ہے بلغنی رَسٌّ من الخبر: مجھے خبر کا کچھ حصہ معلوم ہوا۔الرَّسِیس: غیر صحیح خبر۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۴ـوَسَّ ـُرَسًّا بینهم: کے درمیان صلح کرانا، فساد ڈالنا
(ضد) ـالرَّسِیس: عاقل۔
۵ـوَاسَّ مُرَاسَّةً ہُ بالامر: کسی پر معاملہ ظاہر کرنا، افشا کرنا، فاش کرنا ـالرَّسّ: چیز کی ابتداء، بخار کی ابتداء۔ کہا جاتا ہے ـبِهِ رَسُّ حُمَّی: اسے پہلا بخار چڑھا ہے ـرَسُّ الحب: پہلی محبت ـوَسِیسُ الحُمَّی: بخار کا پہلا چڑھنا ـ الحُبّ: پہلی محبت۔
۶ـالرَّسّ: علامت ـوَسُّ الحُبّ: محبت کا بقیہ اور اثر۔
الرُّسَّة و الأُرْسُوسَة: ٹوپی ـالرُّسَّی: ٹیلہ۔
رَسِیسُ الحُبّ: محبت کا بقیہ اور اثر ـوِیحٌ رَسِیسٌ: نرم ہوا۔
○ رَسِیس: زنگار سے ڈھکا ہوا۔

رسب: اـرَسَب و رَسُب ـرُسُوبًا و رَسَبًا الشیءُ فی الماء: چیز کا پانی کی تہ میں چلا جانا ـ سَبَ فی الامتحان: امتحان میں فیل ہونا ـــ ت العینُ: آنکھ کا اندر کو بیٹھ جانا ـارْسَـــبَ ہُ: کو نیچے اتارنا۔
الرُّسَبُ و الرَّسَبُ و المِرْسَب من السیوف: اندر گھس جانے والی تلوار ـالرَّاسِب من الرِجال: حلیم، بردبار ـالرَّسُوب من الرجال: حلیم، بردبار ـ من السیوف: اندر گھس جانے والی تلوار ـالرَّوَاسِب (ط ا): گار، درد، تلچھٹ، نیچے بیٹھنے والے مادوں کی تہیں (واحد راسِب) انہیں الرسوبیات والمواد الرسوبیة بھی کہا جاتا ہے۔
۲ـالراسب والرسوب من الرجال: حلیم ـالرَّوْسَب: مصیبت۔
○ رَسَبَ ـُرُسُوبًا: تہ میں چلا جانا، تہہ میں بیٹھ جانا، بیٹھ جانا، دب جانا، دھنس جانا (خصوصاً پانی میں) ـــ فی الامتحان: امتحان میں ناکام ہو جانا، فیل ہو جانا۔
رَسَّبَ ہ: کو کسی سیال کی تہہ میں بٹھانا، گار، تلچھٹ، دُرد، تہ نشین مادہ چھوڑ جانا، کسی چیز کو اچانک کسی خاص حالت میں پھینک دینا ـتَرَسَّبَ: تہہ میں بیٹھ جانا، بیٹھ جانا، دب جانا، دھنس جانا، کسی خاص حالت میں پھینکا جانا، چھوڑا جانا (تہ نشین مادہ کا) ـرُسُـــوب: دُرد، تلچھٹ، گار، امتحان میں ناکامی ـتَرْسِیب: تہ نشیں مادوں کو چھوڑ جانے کا عمل، کسی علاقہ میں ہونے والی بارش برفباری وغیرہ کی مقدار ـرَاسِب: دیکھو رَوَاسِب (اوپر)۔

رسح: رَسِحَ ـَرَسَحًا: کے کولہوں اور رانوں کا لاغر ہونا، کم گوشت والا ہونا۔ صفت اَرْسَح مؤنث: رَسْحَاء، جمع رُسْحٌ اَرْسَحَ ہُ: کو لاغر کرنا، دبلا پتلا کرنا۔
اِمرأةٌ رَسْحاء: بدشکل، بری عورت۔
○ رُسْتَامِیَة: (پادری کا) قبائے سیاہ۔
○ رَسْتَقَ ہ: کو صاف کرنا، سلیقے سے رکھنا، ترتیب سے رکھنا۔
○ رَسْتُو و رَوْسْتَو: بھنا ہوا گوشت۔
○ رَسْتُورَان: ریسٹورنٹ، ریستوران، طعام گاہ۔
○ مَرْسَح (بمعنی مسرح) جمع مَرَاسِح: تھیٹر، منڈوا، اسٹیج، پارٹی، سماجی اجتماع ـمَرْسَحِی: سماجی، پارٹی کا، رسمی (لباس)۔

رسخ: اـرَسَخَ ـُرُسُوخًا: اپنی جگہ گڑ جانا۔ کہا جاتا ہے: رسخ الحبرُ فی الصحیفة والعلمُ فی القلب: سیاہی کتاب میں جم گئی اور علم دل میں رچ گیا ـفلانٌ راسِخٌ فی العلم: فلاں شخص پختہ علم والا ہے۔
اَرْسَخَ ہُ: گاڑنا، جمانا ـتَرَسَّخَ فی التُقَی: تقوی میں راسخ القدم ہونا۔
۲ـوَسَخَ ـُرُسُوخًا الغدیرُ: تالاب کا پانی زمین میں جذب ہو جانا، بیٹھ جانا۔
۳ـالرَّسْخ عند غلاة أصحاب التناسخ: (انتہا پسند تناسخ کے قائلین کے نزدیک): روح کا جسم سے نباتات و جمادات میں منتقل ہو جانا۔
○ رَسَخَ ـُرُسُوخًا فی: میں مضبوطی سے قائم ہونا، مستقل بنیادوں پر استوار ہونا، میں گہرائی تک جڑ پکڑنا ـــ: مضبوط ہونا، ٹھوس ہونا، پائدار ہونا ـــ فی: سے خوب واقف ہونا، میں ماہر ہونا، سے پوری طرح واقف ہونا، میں خوب مہارت رکھنا، کسی شعبہ میں ماہر ہونا ـــ: رسنا ـــ فی: میں سرایت کرنا ـــ: (رنگ کا) تیز ہو جانا ـوَسَّخَ و اَرْسَخَ ہ: کو مستحکم کرنا، قائم کرنا، مستقل بنیادوں پر استوار کرنا، دل میں ڈالنا، کے بارے اچھی طرح ذہن نشین کرنا، کو مضبوطی سے لگانا، جڑنا، پکا کرنا ـرَسَّخَ الشیءَ فی ذِهْنِهِ: میں کوئی چیز خوب ذہن نشین کرنا، دل نشین کرنا، دل میں بٹھانا، نقش کرنا ـاَرْسَخ: زیادہ مضبوطی سے قائم، زیادہ گہرائی کے ساتھ جڑ پکڑا ہوا ـاَرْسَخُ قدمًا: زیادہ مضبوطی سے قائم، زیادہ گہرائی کے ساتھ جڑ پکڑے ہوئے ـوَاسِخ: مضبوطی سے قائم، گہرائی میں جڑ پکڑے ہوئے، استوار، مضبوطی سے لگایا یا جوڑا ہوا، پائدار ـــ فی: سے خوب واقف، میں ماہر۔
○ رِسْرَاس: سریش، لیس دار، چپکانے والا (مادہ) خصوصاً زرد پاؤڈر سے بنا ہوا سریش جو چمڑے کو چپکانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

رسط: الرَّسَاطُون و الرُّزاداق (فارسی)

رسع: اـرَسَعَ ـَرَسْعًا العضوُ: عضو کا خراب اور ڈھیلا ہونا ـــ ت عینُه: آنکھ کے پپوٹوں کا آپس میں چمٹنا ـوَسِعَ ـَرَسَعًا: کے پپوٹوں کا خراب ہونا۔ صفت أَرْسَع ـ ـــ ت عینُه: کی آنکھ کے پپوٹوں کا خراب و متغیر ہونا۔ صفت رَسْعاء رَسَّعَ: کی آنکھ کے کوئے کا خراب ہونا۔
۲ـرَسَعَ ـَ رَسْعًا الصبیَّ وغیرَہُ: نظر بد سے حفاظت کے لئے بچہ وغیرہ کے ہاتھ یا پاؤں میں مہرہ باندھنا ـرَسَّعَ الصبیَّ: نظر بد سے حفاظت کے لئے بچے کے ہاتھ یا پیر میں مہرہ باندھنا۔
۳ـرَسِعَ ـَ رَسَعًا بہ الشیءُ: سے چیز کا چپکنا ـرَسَّعَ: گھر میں جم کر رہنا اور چھوڑ کر نہ جانا ـــ الشیءَ: چیز کو چپکانا ـــ السَیْرَ: ایک تسمہ کو چیر کر دوسرا تسمہ اس میں داخل کرنا ـالرَسِیع: چپکا ہوا ایک تسمہ کو چیر کر دوسرا تسمہ اس میں داخل کیا ہوا ـالرُّسُوع: کمان کے وسط میں گندھے ہوئے تسمے ـالرَسَائِع واحد رِسَاعَة: تلوار وغیرہ کے پرتلے کے نچلے حصہ میں گندھے ہوئے تسمے۔

رسغ: اـوَسَغَ ـُرَسْغًا البعیرَ: اونٹ کی اگلی ٹانگوں کے گٹے میں رسی باندھنا ـرَسَّغَ المطرُ: ٹخنوں ٹخنوں بارش ہونا ـرَاسَغَ ہُ: کو کشتی میں گٹے پکڑ کر گرا دینا ـالرُّسْغ و الرُّسُغ جمع اَرْسَاغ و اَرْسُغ (ع ا): گٹا، پہنچا، ٹخنہ ـالرَسَغ (طب): جانور کی ٹانگوں میں ڈھیلا پن ـالرِسَاغ: وہ رسی جو جانور کی اگلی ٹانگوں کے گٹے میں باندھ کر کھونٹے سے باندھتے ہیں تاکہ وہ چل پھر نہ سکے۔
۲ـرَسَّغَ العَیْش: کو وسیع کرنا ـاِرْتَسَغَ علی عیاله: اہل و عیال پر دل کھول کر خرچ کرنا ـالرَسِیغ من العَیْشِ: خوشحال زندگی ـــ من الطعامِ: بہت سا کھانا، بہت سی خوراک ـالمُرَسَّغ من الآراء: کمزور (خام رائے)۔
۳ـرَسَّغَ الکلامَ: کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔
○ رُسْغ جمع اَرْسَاغ و اَرْسُغ: کلائی، پہنچا۔

رسف: رَسَفَ ـِرَسْفًا و رَسِیفًا و رَسَافانًا: پاؤں بندھے ہوئے کی طرح چلنا ـاَرْسَفَ الدابَّةَ: بندھے ہوئے جانور کو ہکالنا ـاِرْتَسَفَ الشیءُ: چیز کا بلند ہونا۔
○ رَسَفَ ـِرَسْفًا و رَسِیفًا و رَسَافَانًا: بیڑیوں میں چلنا، بندھا ہونا، (بحری جہاز کا) لنگر انداز ہونا۔

رسل: اـرَسِلَ ـَرَسَلًا و رَسَالَةً الشعَرُ: بالوں کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لٹکنا۔ اَرْسَلَ القولَ: بات کو آزادی سے کہنا، بلاقید بولنا۔ تَرَسَّلَ فی الرکوب: اپنی ٹانگوں پر کپڑے ڈال کر جانور کی پشت پر پھیلانا۔ ـــ فی القعود: اپنے پاؤں اور اردگرد کپڑے ڈال کر چارزانو بیٹھنا۔ اِسْتَرْسَلَ الشَعرُ: بالوں کا سیدھا ہونا اور لٹکنا۔ ـ فی الکلام: لمبی گفتگو کرنا۔ ـــ الیہ: کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا، بے تکلفی سے پیش آنا۔ الرَسْل من الشَعَرِ: لٹکے ہوئے بال۔ الرِسْل جمع رِسَال. نرمی، آسودگی، دودھ۔ الرَسِیل جمع اَرْسُل و رُسُل و رُسَلاء: کشادہ۔ الرَسْلَة: کاہلی، سستی۔ رجلٌ فیہ رَسْلَةٌ: کاہل مرد۔ هُمْ فی رَسْلَةٍ من العیش: وہ آسودہ زندگی میں ہیں۔ المُرسَلَة جمع مُرْسَلات: منکوں کی لمبی مالا۔

۲۔ رَسِلَ ـ رَسَلاً و رَسَالَةً البعیرُ: اونٹ کا نرم رفتار ہونا۔ رَسَّلَ فی القراءَةِ: خوش الحانی سے پڑھنا، آہستہ آہستہ درستی سے پڑھنا۔ کہا جاتا ہے: رَسَّلَ قراءَتَهُ: اس نے خوش الحانی سے پڑھا۔ ـــ فی القراءَةِ: اس نے آہستہ آہستہ پڑھا۔ تَرَسَّلَ: آہستگی کرنا، نرمی کرنا۔ اِسْتَرْسَلَ الشیءُ: نرم ہونا۔ الرَسْل من السَیرِ: آہستہ چال۔ ـ من الابل: نرم رفتار اونٹ۔ الرِسْل جمع رِسَال: گھوڑے کے بازو کا طرف۔ ـــ و الرِسْلَة: آہستگی، نرمی، محبت، دوستی۔ کہا جاتا ہے: علی رِسْلِكَ یا رجُل: آہستہ و باوقار ہو۔ ناقةٌ رَسْلَةٌ: نرم رفتار اونٹنی۔ الرِسَال: اونٹ کی ٹانگیں۔ ناقةٌ مِرسَالٌ جمع مَراسِیل: نرم رفتار اونٹنی۔ الرُسَیْلَة: الرِسْلَة کی تصغیر۔ کہا جاتا ہے: اَلْقَی الکلامَ عَلَی رُسَیْلاتِهِ: اس نے گفتگو سے بے اعتنائی کی۔

۳۔ رَاسَلَهُ فی و علی و بالامر: ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا۔ ـ هُ الغِنَاءَ: سے گانے میں مقابلہ کرنا۔ اَرْسَلَهُ: کو بھیجنا، آزاد کرنا، چھوڑنا۔ ـــ بہ الیہ: پیغام کے ساتھ کسی کو کسی کے پاس بھیجنا۔ ـــ قولَهُ مثلاً: اپنے قول کو ضرب المثل بنانا۔ ـــ فلاناً علیہ: کسی کو کسی پر مسلط کرنا۔ تَرَسَّلَ: خط لکھنا، رسالت کا دعوی کرنا۔ تَرَاسَلَ القومُ: آپس میں خط و کتابت کرنا، بعض کا بعض کی طرح یکے بعد دیگرے کرنا۔ الرَسَل جمع اَرْسَال: ہر چیز کا گلہ، آدمیوں کا گروہ۔ الرِسْلَة: گروہ جماعت۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا رِسْلَةً: وہ جماعت جماعت آئے، گروہ گروہ آئے۔ الرَسُول جمع رُسْل و رُسُل و اَرْسُل و رُسَلاء: مسلمانوں کے نبی کا لقب، پیغمبر، بھیجا ہوا، فرستادہ، رسالت، پیغمبری، حضرت مسیح علیہ السلام کے رسولوں میں سے ایک جنہوں نے انجیل مقدس کو پھیلایا۔ الرَسِیل جمع اَرْسُل و رُسُل و رُسَلاء: بھیجا ہوا، فرستادہ، پیغامبر، ممتاز شخصیت، رسالت، پیغمبری، پیغام بھیجنے والا، جدوجہد وغیرہ میں آپ سے متفق، گھوڑ دوڑ میں دوڑنے والا گھوڑا، میٹھا پانی۔ الرِسَالَة و الرَسَالَة جمع رَسَائِل و رِسَالات: پیغام، خط۔ المِرْسَال جمع مَرَاسِیل: چھوٹا تیر، پیغامبر۔ الرَسُولِیّ مؤنث رَسُولِیَة: (عیسائیوں کے کیتھولک مذہب میں): پاپائے اعظم کے فیصلے اور ہدایات وغیرہ۔ المُرْسَلات: ہوائیں، فرشتے یا گھوڑے۔

○ رَسِلَ ـ رَسَلاً: (بالوں کا) لمبا ہونا، لٹکنا۔ رَاسَلَ ہ: کے ساتھ خط و کتابت کرنا، خطوط کا تبادلہ کرنا، مراسلت رکھنا، سے رابطہ قائم کرنا۔ اَرْسَلَ ہ/ ہ/ب إلی/ل: کو کے پاس بھیجنا، ارسال کرنا۔ ـــ ہ/ب إلی/ل: کوئی چیز کسی کو بھیجنا، روانہ کرنا، کوئی چیز کسی کو جہاز کے ذریعے بھیجنا۔ ـ: ارسال کرنا، منتقل کرنا (ریڈیو کا)۔ ہ کو چھوڑنا، جانے دینا، کو پابندی وغیرہ سے آزاد کرنا، کو چھوڑ دینا، جانے کی اجازت دینا، خارج کرنا، کا اظہار کرنا، (لفظ) زبان سے نکالنا، کہنا، بولنا، (آنسو) بہانا (بالوں کو) علی پر گرانا۔ ارسل فی طلبِهِ: کسی کو بلا بھیجنا۔ ارسل الکلام ارسالاً: آزادی سے یا کھل کر کہنا۔ ارسل نَفْسَهُ: اپنی قدرتی (فطرتی) ترنگ، جذبہ کے آگے جھک جانا، فطرتی کام کرنا۔ اَرْسَلَهُ عَلَی سَجِیَتِهِ: کسی کو بے تکلفی سے بٹھانا، اپنے ہی گھر میں سمجھنے کو کہنا۔ ارسل نفسَهُ علی سَجِیَتِهَا: اپنا ہی گھر سمجھنا، بے تکلفی سے بیٹھنا، اپنے احساسات اور خواہشات کا اظہار کرنا۔ تَرَسَّلَ فی: میں تاخیر کرنا، بہت سستی کرنا۔ ـ: بالوں کا لٹکنا، لمبا ہونا۔ تَرَاسَلَ: خطوط کا تبادلہ کرنا، خط و کتابت قائم رکھنا۔ ـــ ب: ایک دوسرے کو کچھ بھیجنا، کا آپس میں تبادلہ کرنا۔ اِسْتَرْسَلَ من ہ: سے کچھ بھیجنے کو کہنا، سے کچھ بھجوانا۔ ـــ: ستانا، آرام سے ہونا، پابندی سے آزاد ہونا، بالوں کا لمبا ہونا، لٹکنا۔ ـ إلی: کے ساتھ دوستانہ ہونا، خلیق، خوش اخلاق، با اخلاق یا با مروت ہونا، کا گہرا یا جگری دوست ہونا، کے یاروں کا یار ہونا، کے ساتھ ملنسار ہونا۔ ـــ: قدرتی طور پر کام کرنا، کسی تصنع بناوٹ کے بغیر کام کرنا، اپنی خواہشات اور احساسات کا اظہار کرنا۔ ـــ فی الکلام: تفصیلاً گفتگو کرنا، خطبہ کو طول دینا۔ ـــ فی: کا ہو رہنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، کو برقرار رکھنا، اسی طرح جاری رکھنا۔ رَسْل: آہستہ، نرم، آرام آرام کا (قدم، چال) ڈھیلا؛ لمبے اور لٹکتے ہوئے (بال)۔ رِسْل: اعتدال پسندی، نرمی۔ علی رِسْلِكَ: آہستہ، نرمی سے، آہستہ آہستہ کام کرو۔ رَسِیل جمع رُسَلاء: پیغام بر، پیغام رساں، قاصد، ہرکارہ۔ رَسُول جمع رُسُل: پیغمبر، پیغامبر، پیغام رساں، سفارتی نمائندہ، ایلچی، مندوب، نمائندہ، (حضرت عیسی علیہ السلام کا) حواری، داعی، بانی تحریک، رسول، رسول اللہ یا الرسول: خدا کا پیغامبر، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رَسُولِی: پیغمبرانہ، داعیانہ، پاپائی۔ البرکَةُ الرسولیة: پیغمبرانہ برکت، اشیرباد، دعائے خیر۔ السُلْطَةُ الرسولیة: پاپائی نظام پاپائی۔ قَاصِدٌ رَسُولِیّ: پیغمبر کا نمائندہ۔ رِسَالة جمع رِسَالات و رَسَائِل: ترسیل، بھیجا ہوا مال، جہاز کے ذریعے بھیجا ہوا مال، ڈاک کی چیز، (تحریری) اطلاع، مکتوب، مراسلہ، (تحریری) رپورٹ، سرکاری مراسلہ، چٹھی، خط، نوٹ، مکتوب، نامہ، بھیجی ہوئی چیز، مراسلہ، جنگی مراسلہ، خبر، پیغام، رسالہ، مقالہ (کسی موضوع پر)، ریڈیو پیغام، جمع رِسَالات: مشن، پیشہ، شغل، مشغلہ۔ رسالة برقیَة: ٹیلیگرام۔ رِسالة غَرَامِیَة: محبت کا خط۔ رسالة مُسَجَّلَة: رجسٹرڈ لیٹر (چٹھی)۔ رُسَیْلات: القی الخبرَ علی رُسَیْلاتِهِ: اس نے معاملہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مِرْسَال: مِرْسالُ نُورٍ جمع مرسالاتُ نورٍ: سرچ لائٹ (برقی روشنی کی) تیز شعاعیں۔ مُرَاسَلة: خطوط کا تبادلہ، خطوط کتابت، نوٹ، پیغام، چٹھی، خط، اطلاع، مکتوب، مراسلہ۔ اِرْسَال: بھیجنا، ارسال کرنا، جہاز کے ذریعے بھیجنا، ترسیل۔ اِرْسَالِیَة جمع اِرْسَالِیَات: بھیجا ہوا مال، مرسلہ مال، ڈاک کی کوئی چیز، جہاز کے ذریعے بھیجا ہوا مال، نقل و حمل، (فوجی) مہم، مشن۔ تَرَسُّل: چٹھی لکھنے کا فن۔ اِسْتِرْسَال: آرام، آسائش، حقیقی پن، قدرتی پن، برجستگی، بے ساختگی، آرام، بے انتہا لاپروائی، لاابالی پن، مفصل بیان، مفصل قول یا تحریر۔ مُرَاسِل جمع مُرَاسِلون: مراسلہ نگار، نامہ نگار۔ مُرَاسِل حربی: جنگی نامہ نگار۔ مُرَاسِل خاصٌ: خصوصی نامہ نگار۔ مُرَاسِلٌ رِیَاضِی: کھیلوں کی خبریں بھیجنے والا، کھیلوں کا خبر رساں، صحافی۔ مُرْسِل: (خط) بھیجنے والا (مال) بھیجنے والا، ٹرانسمیٹر (ریڈیو)۔ مُرْسِلَة جمع مُرْسِلات: ٹرانسمیٹر (ریڈیو)۔ مُرْسَل: بھیجا ہوا، ارسال کیا ہوا، نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجا ہوا، تفویض کیا ہوا، ارسال شدہ،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ٹرانسمٹ کیا ہوا (ریڈیو): لمبے اور لٹکتے بال (جمع مُرسَلون) مشنری، عیسائی مبلغ، نامکمل طور پر منتقل کی ہوئی حدیث نبوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری نسل سے پیچھے نہ جاتی ہو۔مُرسَل الیہ: وصول کنندہ، مکتوب الیہ، جسے مال بھیجا جائے، مرسل الیہ۔کلام مُرسَل: نثر۔مُرسَلیَّۃ: مشن۔ مُستَرسَل: ڈھیلے، لٹکتے (بال)، دوستانہ، خلیق، خوش اخلاق، با اخلاق، بامروت، گہرا جگری (دوست) ملنسار، یاروں کا یار۔ (فی یا مع): (کی) نذر، (کے لئے) مخصوص یا وقف شدہ۔

رسم: ۱رَسَمَ ـُ رَسمًا المطرُ الدیارَ: بارش کا گھروں کو مٹا کر اس کی نشانی باقی رکھنا۔ نحوَہ: کی طرف تیز جانا۔ رَسمًا العیرُ: اونٹ کا نشانات قدم کو باقی چھوڑنا، تیز چلنا۔صفت رُسوم۔ رَسَّمَ و ارْتَسَمَ الناقۃ: اونٹنی کو چلوا کر اس کے نشانات قدم ڈلوانا۔تَرَسَّمَ الدار: مکان کے نشانات کو غور سے دیکھنا۔ الشیءَ: کو یاد کرنا۔ البانیُ او الحاجرُ: عمارت بنانے یا کھودنے کے لئے زمین دیکھنا۔

الرَّسم (مص) جمع رُسوم و اَرسُم: مکان کے مٹے ہوئے نشانات، زمین میں دبا ہوا کنواں۔

الرَّسَم: چلنے کی خوبی، چال کی خوبصورتی۔الرَّاسِم: بہتا پانی۔الرَّوسَم: مصیبت۔الرَّسمان والمِرسَم: اونٹوں کی چال۔الرَّواسِم: پرانے لوگوں کو یاد کرنے کے پُر معنے مقولے۔واحد راسِم وراسِمۃ: اونٹ جو چلتے ہوئے نشانات قدم باقی چھوڑ جائیں۔

۲رَسَمَ ـُ رَسمًا علی کذا: پر لکھنا۔ الکتابَ: کتاب لکھنا۔ دائرۃً او قطعاً مخروطیا او خطا منحنیاً علی مُضلَّع (ہ): کسی کثیر الاضلاع شکل میں دائرہ، مخروطی شکل یا خط منحنی کو اس کے سروں سے گزارنا۔ دائرۃ او قطعاً مخروطیاً او خطا منحنیا فی مُضلَّع: دائرہ، مخروطی شکل یا خط منحنی کو اس کے اضلاع کو چھوتا ہوا بنانا۔رَسَّمَ الثوبَ: کپڑے کو دھاری دار بنانا۔الرَّسم (مص) جمع رُسوم و اَرسُم: کسی چیز کا خاکہ، علامت، مجاز (غیر واقعی) جیسے شاعر کے قول میں اری ودکم رسما وودی حقیقۃً: میں تمہاری دوستی کو غیر واقعی اور اپنی دوستی کو واقعی سمجھتا ہوں۔ (ف ج): چیزوں، اشخاص، طبیعی مناظر یا دیہاتی مناظر کی تصویر جو قلم یا برش سے بنائی گئی ہو۔ مصور کی بنائی ہوئی تصویر، رنگین تصویر، پینٹنگ۔

الرَّوسَم: علامت، نشان، پینٹنگ۔الرَّسّام: نقاش، مصور۔الرَّاسُوم جمع رَواسیم و الرَّوسَم جمع رَواسِم: کندا لکڑی جس سے کھلیان میں گیہوں وغیرہ کے ڈھیر پر مہر لگائی جاتی ہے تاکہ اس میں چوری نہ ہو سکے، مہر، مٹکے وغیرہ پر مہر لگانے کی چیز۔الرَّواسِیم: جاہلیت کے زمانہ کی کتابیں یا تحریریں۔

۳رَسَمَ ـُ رَسمًا لہ کذا: کو کا حکم دینا۔ارْتَسَمَ الامرَ: حکم بجالانا۔ کہا جاتا ہے رَسم لہ کذا فارتَسَمَہ: اس نے اس کو ایسے کام کا حکم دیا اور وہ اسے بجالایا۔الرَّسم (مص): حکم۔ عند اہل الجبایۃ: معاملہ، ایکسائز یا سیلز ٹیکس، کسٹم، ڈیوٹی۔

المَرسُوم (مفع) جمع مَراسِیم و مَراسِم: لکھا ہوا، خط، سرکاری پروانہ، قاعدہ، آرڈیننس۔

۴رَسَمَ ـُ رَسمًا ہ الاسقفُ: بشپ کا کسی کو پادری بنانا۔اسم: الرِّسامۃ: یعنی پادری بنانا۔ارْتَسَمَ الرجلُ: پادری بنایا جانا۔ للّٰہ تعالیٰ: تکبیر کہنا، اور دعا کرنا۔

○ رَسَمَ ـُ رَسمًا ہ: کی تصویر کھینچنا، کا خاکہ کھینچنا، کا خاکہ بنانا، (دائرہ) بنانا یا کھینچنا، (کی) رنگین تصویر کھینچنا، کو لکھنا، ریکارڈ کرنا، کا نشان لگانا، کو ظاہر کرنا، کی خاکہ کشی کرنا، کو مختصر طور پر بیان کرنا، کی تصویر یا نقشہ کھینچنا، کی لفظوں میں تصویر کھینچنا، بیان کرنا۔ خِطَّۃً: منصوبہ بنانا یا نقشہ بنانا، تیار کرنا، سوچنا، تصور کرنا۔ ل ہ/ب: کے لئے کچھ مقرر کرنا، کے لئے بطور قاعدہ کچھ دینا۔ ہ: کو پادری بنانا۔رَسَمَ شارۃَ الصلیب: صلیب کا نشان بنانا (ہاتھ سے، بلیات سے محفوظ رہنے کے لئے)۔رَسَمَ ہ فی: کو میں درج کرنا، کا نشان لگانا، کو ظاہر کرنا۔ ہ: کسی کو افسر مقرر کرنا۔ تَرَسَّمَ ہ: کے نقش قدم پر چلنا، (مثال) پر عمل کرنا، (کو) اختیار کرنا، افسر مقرر ہونا۔ارْتَسَمَ: معلوم ہونا، ظاہر ہونا، لکھا جانا، نقل کیا جانا، کندہ ہونا، نقش کیا جانا۔ علی: پر نقش چھوڑنا، اثر یا تاثر چھوڑنا، کے ذہن نشین کرنا۔ پادری بنایا جانا، صلیب کا نشان بنانا۔رَسم: ڈرائنگ (سکول میں مضمون کے طور پر)، جمع رُسوم و رُسومات: تصویر، خاکہ، تصویر کشی، ڈرائنگ، ترسیم، گراف، فوٹوگراف، مثال، تمثیل، نمونہ۔جمع رُسوم: آثار، شائبہ، جھلک، نقش، ٹھپا، تقرر، تعین، نشان، نشانی، کندہ کاری، کتبہ، بزرگان دین کے قصے، قومی روایتی افسانے، داستان، کہانی، قصہ، ریکارڈ، یادداشت، نوٹ (سرکاری) دستاویز، قانون، ... تحریر، ... فرمان، ...

قاعدہ، شکل، صورت، ضابطے کی کارروائی، آداب، شرح، فیس، ٹیکس، واجبات، واجب الادا رقم۔ بِرَسم: کے لئے، کی معرفت، کے لئے مقصود/تجویز شدہ۔اَخذُ الرسم: تصویر کھینچنا۔رسم بیانی: واضح کرنے والی شکل، صورت، تشریحی خاکے، نقشے، علامات یا خطوط کے ذریعے کسی عمل کی قوت کا اظہار (diagram)۔رَسمُ الدخول: فیس داخلہ۔ رسم دخولی: درآمدی ڈیوٹی، محصول نامہ درآمد تامینی محصول (tariff)۔رَسمٌ شمسی: فوٹو گراف۔رسم عمومی: ترتیب، زمین کی سطح پر عمارت کا نقشہ۔رسم تفصیلی: مفصل ڈرائنگ۔ رسم قلبی: دل کی تصویر، دل کا نقشہ۔رسوم قَیدیۃ: رجسٹریشن فیس۔رَسمُ الاِنتاج: ایکسائز ٹیکس۔رَسمٌ قِیَمِی: قیمت کے مطابق ڈیوٹی (ٹیکس)۔رَسمٌ ہَزلِیٌّ: کارٹون، کسی کے مضحکہ خیز پہلو کو اور نمایاں کرنے والا خاکہ۔رَسمِی: سرکاری، رسمی، ضابطے کا، رواجی، تقلیدی، پر تکلف، تقاریب کا، تہوار کا، اہلکار، عہدے دار، عوام کا خادم۔رَسمِیًّا: سرکاری طور پر۔رَسمِیات: ضابطے کی کارروائیاں، آداب و رسوم، دستور، رسم، ریت، رسمی آداب کی پابندی، قواعد، ضوابط، احکام۔رجال رسمیۃ: عہدے دار۔ملابس رسمیۃ: سرکاری لباس، عدالتی لباس۔ثِیابٌ رسمیۃ: وردیاں۔جُبّۃٌ رسمیۃ یا شبہٌ بالرَّسمِیّ: نیم سرکاری۔نصف رسمی: نیم سرکاری۔غیر رسمی: غیر سرکاری۔رَسّام جمع رَسّامون: نقشہ نویس، ڈرافسمین، نقاش، مصور، فنکار۔رِسامۃ و رَسامۃ: پادری کا تقرر، پادری مقرر کرنا، پادری بنانے کی تقریب۔رَوسَم جمع رَواسِم: کہاوت یا اعتقاد جو کثرت استعمال کی وجہ سے اپنی دلچسپی، تاثیر کھو بیٹھے اور غیر متعلق ہو جائے۔مَرسَم: (فنکار کا) سٹوڈیو۔مَراسِم: تقریبات، آداب محفل، مجلسی آداب، رسومات، مذہبی مراسم، پیشہ ورانہ آداب، محکمہ استقبال سفراء، کسٹم، اصول، ضوابط۔مدیر ادارۃ المراسم و رئیس المراسم: چیف آف پروٹوکول: ناظم استقبال سفراء۔مراسمُ التتویج: تاج پوشی کی تقریبات، تاج پوشی کی رسوم۔مراسم التشریفات: درباری آداب۔تَرسُّم: ڈیزائن نقشے یا منصوبے بنانے کا عمل۔اِرتسام جمع اِرتسامات: (مرئی) اظہار (کسی کے احساس، جذبہ وغیرہ کا اس کے چہرہ پر)۔مَرسوم: کھینچا گیا، نقل کیا گیا، تصویر کشی کیا ہوا، خاکہ بنایا ہوا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جس کی رنگین تصویر لی گئی ہو، ضابطہ تحریر میں لایا ہوا، لکھا ہوا، خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن تیار کیا یا بنایا ہوا، منصوبہ بنایا ہوا، فیصلہ کیا ہوا، حکم جاری کیا ہوا، جمع مراسیم: فیصلہ، ڈگری، فعل، فرمان، ضابطہ، آرڈیننس۔ (۔ب: کے بارے میں)۔ مراسیم: تقریبات، آداب مجلس، مجلسی آداب، رسومات، آداب محفل، پیشہ ورانہ آداب، ضوابط۔ مرسوم بقانون: قانون، تحریری قانون، آرڈیننس۔ مرسوم تشریعی یا مرسوم اِشْتِرَاعِی: بمعنی مرسوم بقانون۔ مدیرُ المَراسِمْ: چیف آف پروٹوکول، ناظم استقبال معزاء۔

◌ رَسْمَال جمع رَسَامِیل: بمعنی رَأْسُ مال: سرمایہ۔

رسن: رَسَنَ ـ رَسْناً الدابَّةَ: جانور کے سر میں رسی ڈالنا، جانور کو چرنے کے لئے کھلا چھوڑ دینا۔ اَرْسَنَ الدابةَ: بمعنی رَسَنَ الدابة۔ ـ المُهْرَ: بچھیرے کو رام ہو کرانے گردن میں رسی ڈلوانا۔ الرَسَن جمع اَرْسَان و اَرْسُن: رسی۔ کہا جاتا ہے: رَمَی بِرَسَنِهِ علی غارِبِهِ: اس نے اسے جو چاہے کرنے کی کھلی چھٹی دے دی۔ المَرْسِن و المِرسَنَ من الدابَّة جمع مَرَاسِن: جانور کے گلے میں رسی ڈالنے کی جگہ۔

◌ رَسَن جمع اَرْسُن و اَرْسَان و اَرْسِنَة: گلے میں باندھنے کا پٹہ، پھانسی پر لٹکانے کی رسی۔

رسا: ا۔ رَسَا ـ رَسْواً و رُسُوًّا: ثابت و استوار ہونا۔ صفت: راسٍ مؤنث رَاسِیَة جمع رَوَاسٍ و راسِیَات۔ ـ ت السفینةُ: جہاز کا لنگر انداز ہونا۔ رَاسَی ہُ: سے تیرنے میں مقابلہ کرنا۔ اَرْسَی اِرْساءً الشیءُ: ثابت و استوار ہونا۔ ـ السفینةَ: جہاز کو لنگر انداز کرنا۔ ـ الوتدَ فی الارض: کھونٹے کو زمین میں ٹھونکنا، گاڑنا۔ الرَسِیّ: قائم، خیمے کا درمیانی ستون۔ المُرْسَی (مفع) اللہ تعالیٰ کا قول یسالونك عن الساعة ایّانَ مُرسَاها: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی۔ المَرْسَی جمع مَرَاسٍ: بندرگاہ۔ قِدرٌ رَاسِیة: بڑی دیگ جو ایک جگہ پر رہے۔ المِرْسَاة جمع مَرَاسٍ: کشتی یا جہاز کا لنگر۔ کہا جاتا ہے: اَلْقَی مَرَاسِیَهُ: وہ رہ پڑا، اس نے قیام کیا۔ اَلْقَتَ السحبُ مَرَاسِیَهَا: بادل جم کر خوب برسا۔ الرَوَاسِي: مضبوط پہاڑ جو اپنی جگہ رہیں۔

۲۔ رَسَا ـ رَسْوًا بین القوم: لوگوں میں صلح کرانا اور اختلاف کو مٹا دینا۔

۳۔ رَسَا ـ رَسْوًا عنهُ حدیثاً: کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا۔ ـ له الحدیثَ: سے بات کا ایک حصہ بیان کرنا۔ الرَسْو: حدیث (بات) کا ایک ٹکڑا۔

◌ رسو: رَسَا ـ رَسُوًّا: مضبوط ہونا، پائیدار ہونا، متوازن ہونا۔ ـ علی: ساحل سے دور لنگر انداز ہونا۔ ـ: لنگر ڈالنا، گودی میں آنا، خشکی کے قریب پہنچنا۔ ـ فی: بندرگاہ میں لنگر انداز ہونا۔ ـ ب: کسی کو جہاز سے اتارنا (جہاز کا)۔ ـ علی: کے پاس آخر کار یا انجام کار آنا، یا جانا۔ ـ علی: ناخوشگوار کام یا فرض سونپا جانا۔ رسا علیه المَزَادُ: یہ نیلامی میں اسے فروخت ہوئی۔ رست علیه المناقصة: ٹنڈر طلب کئے جانے کے بعد ٹھیکہ اس کو دیا گیا۔ اَرْسَی ہ بکو مضبوطی سے گاڑنا، بند کرنا، جہاز کو لنگر انداز کرنا۔ مَرسًی جمع مَرَاسٍ: لنگرگاہ، لنگر ڈالنے کا مقام۔ مَرسی مَطْرُوح: مرسی مطروح: بحر ابیض متوسط کے ساحل پر شمال مغربی مصر کا ایک گاؤں۔ مِرْساة جمع مَرَاسٍ: لنگر۔ راسٍ جمع رَوَاسٍ: جمایا ہوا، گاڑا ہوا، لگایا ہوا، غیر تغیر پذیر، ساکن، غیر متحرک، ثابت قدم، غیر متزلزل، مضبوط، پکا، مستحکم، متوازن، ثابت قدم، پائدار، مضبوطی سے قائم، لنگر انداز جمع راسِیَات و رَوَاسٍ: بہت اونچے غیر متزلزل پہاڑ۔

◌ رسی: بمعنی رسا: لنگر انداز ہونا۔

رشّ: ا۔ رَشَّ ـ رَشًّا و تَرْشَاشًا الماءَ: پانی چھڑکنا، بکھیرنا۔ ـ تِ السماءُ: آسمان کا پھوار برسانا۔ ـ الشیءَ: کو دھونا۔ اَرَشَّتِ السماءُ: آسمان کا پھوار برسانا۔ ـ ت الطعنةُ: زخم کا کشادہ ہو کر اور پھیل کر خون بہانا۔ ـ الشِواءُ: بھونے ہوئے گوشت سے چربی و چکنائی کا ٹپکنا۔ ـ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑا کر پسینہ نکالنا۔ تَرَشَّشَ علیه الماءُ: پر پانی کے چھینٹے پڑنا، بہنا۔ الرَشّ (مص) جمع رِشَاش: پھوار، المناک چوٹ۔ الرَشَاش: پانی اور خون وغیرہ کا چھینٹا۔ الرَشَّاش (اع): مشین گن۔ الرَشِیش (اع): سب مشین گن، ٹومی گن۔ الرَشِیْشَة (اع): سب مشین گن، ٹومی گن۔ المِرَشَّة: پانی وغیرہ چھڑکنے کا آلہ، جھارا۔

۲۔ رَشْرَش رَشْرَشَةً الشیءُ: ڈھیلا ہونا۔ ـ البعیرُ: اونٹ کا ٹھیک بیٹھنے کے لئے سینے سے زمین رگڑنا۔ تَرَشْرَشَ الماءُ: پانی کا بہنا۔ خبزٌ او عظمٌ رَشْرَشٌ و رَشْرَاشٌ: نرم روٹی یا ہڈی۔

◌ رَشَّ ـ رَشًّا ہ: (سیال چیز کو) اچھالنا، چھڑکنا، یکا یک نکالنا، پانی وغیرہ چھڑکنا، پانی وغیرہ کا ہلکا، چھڑکاؤ کرنا۔ ـ ہ ب علی: کو کے ساتھ پر چھڑکنا، کے کسی چیز کے ساتھ پر چھینٹے ڈالنا۔ ـ ہ ب: (پانی وغیرہ کے ساتھ) کسی چیز کے چھینٹے اڑانا، کو سے آلودہ یا لت پت کرنا، بگاڑنا، خراب کرنا، گندا کرنا، سے پر دھبے ڈالنا۔ ـ ہ: کو بھگونا، پانی دینا، کی آبپاشی کرنا، پر چھڑکاؤ کرنا۔ رَشّ: چھڑکنا، پانی دینا، آبپاشی کرنا، چھینٹے اڑانا، آلودہ کرنا، لتھیڑنا، لت پت کرنا، چھڑکاؤ کرنا، بکشاٹ (ہرن مار) کارتوس۔ مصلحة الرَشّ و الکنس: گلیوں اور سڑکوں کی صفائی کا محکمہ۔ عربةُ الرشّ: چھڑکاؤ کی گاڑی۔ رَمَی رَشًّا: برسٹ فائر کرنا، فائرنگ کی بوچھاڑ کرنا۔ رَشَّة: ہلکی پھوار۔ ترشح۔ رَشَاش: چھینٹے ڈالا ہوا سیال، پھوار، ترشح، ٹپکا۔ رَشَّاش جمع رَشَّاشَات: پانی دینے والی نرم نالی، مشین گن۔ مِدْفَعْ رَشَّاش: مشین گن۔ مُسَدَّسٌ رَشَّاش جمع مسدساتٌ رشّاشةٌ: سب مشین گن، ٹومی گن۔ رَشَّاشة جمع رَشَّاشات: خوشبو کی پھوار، پچکاری، پانی دینے والی بالٹی، فوارے کے نیچے غسل، شاور، ڈوش، پچکاری، پانی کی پچکاری۔ مِرَشَّة: پانی دینے کی بالٹی۔

رشا: رَشَأَ ـ رَشْأً الظبیُ: ہرنی کے بچہ کا مضبوط ہو کر ماں کے ساتھ چلنا۔ ـ ت الظبیةُ: ہرنی کا بچہ جننا۔ الرَشَأ جمع اَرْشَاء (ح): ہرنی کا بچہ یا وہ جو چلنے لگے۔

رشت: الرِشْتَة (ط): مسور اور گندھے ہوئے آٹے کی بتیوں سے بنا ہوا کھانا۔ (فارسی لفظ)۔

رشح: ا۔ رَشَحَ ـ رَشْحًا و رَشَحَانًا و اَرْشَحَ و اِرْتَشَحَ الاناءُ: برتن کا ٹپکنا، رسنا۔ ـ الجسدُ: جسم کا پسینہ والا ہونا۔ کہا جاتا ہے: لم یَرْشَحُ لهُ بشیءٍ: اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ رَشِحَ ـ رَشَحًا و رَشَحَانًا: پسینہ سے تر ہونا۔ تَرَشَّحَ الماءُ: پانی کا پتھروں سے رسنا۔ الرَشْح (مص): پسینہ (طب): نزلہ، زکام۔ الرَاشِح (فا) جمع رَوَاشِح: پتھروں سے بہنے والا پانی، وہ پہاڑ جس کا نچلا حصہ تر ہو۔ الرَشِیح: پسینہ۔ الأَرْشَح: زیادہ تیز فہم۔ کہا جاتا ہے: هو اَرْشَحُ فؤادًا: وہ زیادہ تیز فہم ہے۔ المِرْشَح و المِرْشَحَة: زین کے نیچے ڈالنے کا خوگیر، پسینہ جذب کرنے والی چیز۔

۲۔ رَشَحَ ـ رُشُوحًا الظبیُ: ہرنی کا چھلانگیں لگانا۔ ـ رَشْحًا و اَرْشَحَت الناقةُ و لدَها: اونٹنی کا اپنے بچے کی دم کی جڑ کو رگڑنا، اور سر سے دھکیلنا اور خود رک کر اس کے ساتھ ہونے کا انتظار کرنا۔ صفت: رَاشِح و مُرْشِح و مُرَشِّح۔ رَشَّحَتِ الناقة وَلَدَها: بمعنی رشحت الناقةُ ولدها۔ ـ الظبیةُ ولدَها:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جننے کے بعد ہرنی کا اپنے بچہ کو چاٹنا۔ تَرَشَّحَ وَلَدُ النَّاقِۃِ: اونٹنی کے بچہ کا اپنی ماں کے ساتھ چلنے کے قابل ہونا۔ ــــ ت الظبیۃُ: ہرنی کا جننے کے بعد اپنے بچہ کو چاٹنا۔ الرَّاشِح (فا) جمع رَوَاشِح: زمین پر رینگنے والا کیڑا۔ ــــ من الفصلان: ماں کے ساتھ چلنے کے قابل اونٹنی کا بچہ۔

۳- رَشَّحَ الغیثُ النبتَ: بارش کا نباتات کو بڑھانا، اگانا۔ ــــ الولدَ: بچہ کو پالنا، کسی کام کی تربیت دینا۔ ھو یُرَشَّحُ لولایۃ العھد. اس کو ولی عہدی کی تربیت دی جارہی ہے۔ رَشَّحَ نفسَہُ للانتخابات او لغیر ھا: وہ انتخابات وغیرہ کے لئے امیدوار کھڑا ہوا۔ ــــ المالَ: مال کا اچھا انتظام کرنا۔ تَرَشَّحَ الرجلُ الامرَ: کسی امر کے قابل ولائق ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَرَشَّحَ لِلإنتخابات او لغیر ھا: وہ انتخابات وغیرہ کے لئے امیدوار کھڑا ہوا۔ اِسْتَرْشَحَ النباتَ: پودوں کی پرورش کرنا اور انتظار کرنا کہ لمبی ہوں تو ان کی خبرگیری کرے۔ ــــ النباتُ: پودے کا بلند ہونا۔ الرَّشِیح (ن): پودا۔ المُرَشَّح: امیدوار (انتخابات یا عہدے کا)۔ مُرَشَّحُ الضابطِ (ا ع): ایک فوجی رتبہ۔

○ رَشَحَ ـَ رَشْحًا: (کو) پسینہ آنا، (برتن) کا رسنا، ٹپکنا۔ ــــ ہ: (سیال) کو ٹپکانا، چھاننا، چوانا، نچوڑنا۔ رَشَّحَ ہ: (بچہ) کی پرورش کرنا، پالنا، پوسنا، کی تربیت کرنا، (کسی کو) ٹریننگ دینا، تیار کرنا، نامزد کرنا، امیدوار بنانا۔ (ل کسی عہدے کا)۔ ــــ نفسَہُ لِ: (کسی عہدے) کا امیدوار ہونا، (کسی عہدے) کے لئے درخواست دینا۔ ــــ ہ: کو ٹپکانا فلٹر کرنا۔ تَرَشَّحَ: پرورش پانا، پلنا۔ ــــ لِ: کے لئے موزوں ہونا، اہل ہونا، تربیت یافتہ ہونا، کے لئے امیدوار نامزد ہونا، نامزد شخص ہونا۔ ــــ: کو نزلہ ہونا، زکام ہونا۔ رَشْحٌ: (مائع، سیال) کی ریزش، افراز پسینہ، رسنا، ٹپکنا، نکلنا، چوسنا، مقطر کرنا، تقطیر، اخراج، ٹپکا، نچوڑ، بہنا، پھوٹ نکلنا، رطوبت خارج ہونا، قطرہ قطرہ ہو کر گرنا، نزلہ و زکام۔ رُشَاحَۃ: نکاس، نفوذ۔ تَرْشِیح: ٹریننگ، تیاری، نامزدگی (بطور امیدوار برائے انتخابات)۔ ترشیحُ نفسِہ: امیدواری، خواستگاری، انتخاب، رعایت۔ تَرَشُّح: تقطیر کے ذریعے ڈالنا، سرایت کرنا، داخل ہونا۔ ارتشاح: تقطیر کے ذریعے ڈالنا، سرایت کرنا۔ مُرَشِّح جمع مُرَشِّحات: مقطر کرنے کا آلہ یا برتن، قہوے کا ساوار، تقطیر یا صاف کرنے کا کارخانہ۔ مُرَشَّح جمع مُرَشَّحُون: امیدوار، نامزد شخص، نزلہ، زکام میں مبتلا۔ مُتَرَشِّح جمع مُتَرَشِّحُون: امیدوار، نامزد شخص۔

رشد: ۱- رَشَدَ ـُ رُشْدًا و رَشَادًا و رَشِدَ ـَ رَشَدًا: ہدایت پانا، راہِ راست پر چلنا۔ ــــ أَمْرَہُ: اپنے امر میں ہدایت یافتہ ہونا۔ رَشَّدَہُ اِلی کذا و علیہ و لہ: کو کسی ہدایت کرنا۔ ــــ ہُ القاضی: کو قاضی کا سیدھی راہ چلانا۔ أَرْشَدَہُ اِلی کذا و علیہ و لہ: کو کسی ہدایت کرنا۔ اِسْتَرْشَدَہُ: سے ہدایت طلب کرنا، ــــ لِأَمْرِہِ: راہِ راست پر ہونا۔ الرُّشْد (مص): راہ حق پر برقراری، ہدایت، راستگی۔ الرِّشْدَۃ و الرَّشْدَۃ: جائز شادی، جائز نکاح۔ کہا جاتا ہے: وُلِدَ لِرِشْدَۃٍ: حلال زادے۔ الرَّشَدی: راستگی، ہدایت، راہِ حق پر برقراری۔ الرَّشِید: سیدھی راہ پر چلنے والا، ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ۔ المُرْشِدَۃ جمع مُرْشِدَات: خاتون گائیڈ۔ المَرَاشِد: سیدھے راستے۔

۲- الرَّشَاد و الرُّشَد (ن): ایک قسم کا پودا۔ الرَّشَادَۃ جمع رَشَاد: چٹان، مٹھی بھر کا پتھر۔

○ رَشَدَ ـُ رُشْدًا: صحیح راستے پر ہونا، سیدھے راستے پر چلنا، ہدایت یافتہ ہونا، سچے ایمان والا ہونا، سچا مومن ہونا، عقلمند، ہوشمند، زیرک ہو جانا، پختہ عقل والا ہو جانا، جوان ہونا، بالغ ہونا۔ رَشَّدَہ: کی سیدھے اور صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرنا، کی صحیح رہنمائی کرنا۔ أَرْشَدَہ: کی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرنا، کی صحیح رہنمائی کرنا۔ ــــ ہ اِلی: کو کسی طرف رہنمائی کرنا، کو کا راستہ دکھانا۔ ــــ ہ اِلی اَنْ: کی اس دریافت یا انکشاف کی طرف راہنمائی کرنا کہ...... ــــ: کو کا خیال دلانا، کے ذہن نشین کرنا کہ۔ ــــ ہ اِلی: کی توجہ کی طرف مبذول کرنا، پہ کچھ واضح کرنا، کو کچھ کرنا سکھانا، کسی کی کسی معاملہ میں رہنمائی کرنا، یا اس کی تعلیم دینا یا اس کے بارے میں ہدایت دینا، کو کے بارے میں مطلع کرنا، کو کے حقائق سے آگاہ کرنا، کو کچھ کرنے کا مشورہ دینا۔ ــــ اِلی: کے خلاف مخبری کرنا۔ ــــ: جوان ہونا۔ اِسْتَرْشَدَ ہ/ب: کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے کہنا، سے رہنمائی یا ہدایات طلب کرنا، معلومات طلب کرنا، ــــ: سے مشورہ کرنا، کی ہدایت صلاح مشورہ طلب کرنا، سے ہدایت طلب کرنا۔ ــــ ب: سے رہبری حاصل کرنا۔ رُشْد: (اعمال کی) دیانت داری، مناسب و معقول کردار، اچھی سوجھ بوجھ یا عقل، معقول بات، ہوش، شعور، آگہی، آگاہی، پختگی، بلوغ، بلوغت (ذہن کی)۔ سِنُّ الرُّشْد: بلوغت کی قانونی عمر، پوری [illegible] اِلی رُشْدِہ: کے حواس ٹھکانے لگنا، پرسکون ہو جانا، نشہ اترنا۔ ضاعَ رُشْدُہُ: پاگل ہو جانا، بے حال ہو جانا، بوکھلا جانا۔ ذَھَبَ بِرُشْدِہِ: (تکلیف) کا کسی کو بے حال کر دینا۔ رَشَد: کردار کی پختگی، دیانتداری، صاف گوئی۔ رَشَاد: کردار کی پختگی، اچھی سوجھ بوجھ، عقل، معقول بات، ہوش، (ذہن کی) بلوغت، پختگی۔ رَشِید: ہدایت یافتہ، سچا مومن، معقول، قرین قیاس، مطابق عقل، صاحب عقل، عاقل، عقلی، چتر، سیانا، ہوشیار، خبردار، ذی شعور، فہیم، دانشمند، تیز فہم، امتیاز کرنے والا، صاحب بصیرت، صاحب تمیز، زیرک، پختہ کار، بالغ، پختہ۔ جمع رُشَداء: پوری عمر کا، جوان، سن بلوغ کو پہنچا ہوا۔ رشید: شمالی مصر کے ایک شہر کا نام۔ مَرَاشِد: وہ جگہ جہاں سیدھا راستہ لے جائے، بخشش، چھٹکارا، نجات، نجات دلانے والی چیز۔ تَرْشِید: کسی کی بلوغت کا اعلان یا بیان۔ اِرشاد: رہنمائی، رہبری۔ (ــــ الی: تک لیجانا، تک جانے کا راستہ دکھانا) رہبر، ہاتھ، نگہداشت، روحانی رہنمائی، تعلیم، ہدایت، ہدایت نامہ، اطلاع، مشورہ دینا، نصیحت کرنا، صلاح مشورہ، رائے، ہدایت۔

ارشادات: ہدایات، احکام، نصیحت، صلاح مشورہ۔ بِاِرْشَادِہ: کی ہدایات پر، کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے۔ وِزَارَۃُ الارشاد القومی: وزارت قومی رہنمائی۔ شِعْرٌ اِرْشَادِیٌّ: ناصحانہ اشعار۔ رَاشِد: صحیح راستہ پر گامزن، ہدایت یافتہ، سچے ایمان کا حامل، معقول، عقلمند، ہوشمند، زیرک، پوری عمر کا بالغ، جوان، سن بلوغ کو پہنچا ہوا۔ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُون: صحیح العقیدہ خلفاء (ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم)۔ مُرْشِد جمع مُرْشِدُون: قائد، رہنما، رہبر، صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرنے والا، روحانی رہنما، مشیر، صلاح کار، مخبر، معلم، سکھانے والا، جہاز ران، سیاحوں کا رہبر۔ الاخوان المسلمون کا بڑا رہنما۔ مُرْشِدَۃ: خاتون گائیڈ۔

○ رُشْرُش جمع رَشَارِش: کمر پٹی، پٹی، پٹکا۔ رَشْرَاش: نرم (گوشت)۔

رشف: رَشَفَ ـُ رَشْفًا و رَشِیفًا و تَرْشَافًا و رَشِفَ ـَ رَشَفًا و رَشَفَانًا الماءَ و نحوہ: پانی وغیرہ کو ہونٹوں سے چوسنا۔ ــــ الإناءَ: برتن میں جو کچھ ہو سب پی جانا۔ رَشَّفَ و أَرْشَفَ و تَرَشَّفَ و اِرْتَشَفَ الماءَ: پانی کو بہت چوسنا۔ الرُّشْف و الرَّشَف: حوض میں بچا ہوا تھوڑا سا پانی۔ کہا جاتا ہے: حوضٌ رَشَفٌ: پانی سے خالی حوض۔ المِرْشَف

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جمع مَرَاشِف: پانی چوسنے کا آلہ۔الرَّشَّاف: بہت چوسنے والا۔المَرَاشِف: ہونٹ، لب۔

○ رَشَفَ ـُ رَشْفًا و رَشِفَ ـَ رَشَفًا و تَرَشَّفَ و اِرْتَشَفَ ہ: کو ہونٹوں سے تھوڑا تھوڑا پینا، کی چسکی لینا، کو تچھے سے پینا، کو چوسنا، کی چسکی لگانا، کو ہونٹ لگا کر کھینچنا، ہونٹوں سے چوسنا، کو پینا، (برتن میں جو کچھ ہو) سارا پی لینا، چڑھا جانا۔رَشْفَة جمع رشفات: گھونٹ، چسکی۔

رشق: اَرَشَقَ ـُ رَشْقًا ہ بالسهم: کو تیر مارنا۔ ــ ہ ببصرہ: کو گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا۔ کہا جاتا ہے: رشقهم بنظرة: اس نے ان کی طرف نظر ڈالی۔ ــ ہ بلسانہ: پر طعن و تشنیع کرنا۔راشَقَ مُرَاشَقَةً ہ: ایک دوسرے کو تیر مارنا۔اَرْشَقَ الرامِي: سیدھا تیر چلانا۔ کہا جاتا ہے اَرْشَقَنِي مقصدي: اس نے اس کی طرف جانے میں میرا مقابلہ کیا۔اَرْشَقَ النظرَ الیہ: کو گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا۔ ــ القومَ ببصرہ: لوگوں کو نظر جما کر دیکھنا۔ ــ ت الظبية: ہرنی کا گردن دراز کر کے تیز نظر سے دیکھنا۔تَرَشَّقَ فی الامر: کسی معاملہ میں قوی ہونا، متحرک ہونا۔تَرَاشَقَ القومُ: ایک دوسرے کو تیر مارنا۔ کہا جاتا ہے تَراشَقُوا بالسِنتهم و تراشَقُوا بأعْيُنِهِم: انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی زبانوں سے طعن و تشنیع کی اور آنکھوں سے گھور گھور کر دیکھا۔الرِشْق جمع اَرْشَاق: تیراندازی، تیر افگنی۔الرَشَق: تیز تیر پھینکنے والی کمان۔الأَرْشَق: ہلکا پھلکا۔ کہا جاتا ہے ما اَرْشَقَ هذه القوس: یہ کمان کتنی ہلکی پھلکی اور تیز تیر پھینکنے والی ہے۔الرَشْقَة (ا ع): توپوں کے گولوں کی باڑ۔رَشْقَةُ الِلسان جمع رشقات: بدگوئی۔ کہا جاتا ہے اِیّاك و رشقات اللسان: بدگوئیوں سے بچو۔

۲ رَشُقَ ـُ رَشَاقَةً الغلامُ: خوبصورت اور نازک اندام ہونا، چابک دست ہونا، پھرتیلا ہونا۔ صفت رَشِيق جمع رُشُق۔ الرَشِيق: نازک اندام خوبصورت۔ ــ من اللفظ او الخط: خوش کلام، یا خوش خط۔ الأَرْشَق: سیدھا کھڑا۔ کہا جاتا ہے جِيدٌ اَرْشَق: سیدھی کھڑی گردن۔

۳ رَاشَقَ مُرَاشَقَةً ہ: کے ہمراہ چلنا۔

۴ الرَشْق و الرِشْق: قلم کی آواز۔ آپ کہتے ہیں: سمعت رشق قلمه: میں نے اس کے قلم کی آواز سنی۔

○ رَشَقَ ـُ رَشْقًا ہ ب: پر کوئی چیز پھینکنا، پر (پتھر) پھینکنا یا کو (پتھر) مارنا، کو سے تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، مجروح کرنا، سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، سے کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ ــ ہ فی: کو میں داخل کرنا، جکڑنا، کسنا، جمانا، نصب کرنا، مضبوط یا مستحکم کرنا۔رَشُقَ ـُ رَشَاقَةً: خوشنما ہونا، طرح دار ہونا، خوش شکل ہونا، دیدہ زیب ہونا، حسین قد و قامت کا ہونا، خوش وضع ہونا، حسین و خوبصورت ہونا، دلکش ہونا، چھریرا، دبلا پتلا اور عشوہ طراز ہونا۔تَرَاشَقَ: ایک دوسرے کو پتھر وغیرہ مارنا، ایک دوسرے کو مجروح کرنا۔ رَشِيق: حسین و جمیل، خوبصورت، خوش پوش، خوش وضع، نازک اندام، نازک، دبلا، پتلا، چھریرا، عشوہ طراز۔رَشَاقَة: خوبصورتی، خوش پوشاکی، خوش وضعی، دلکشی، خوش اسلوبی، طرح داری، دیدہ زیبی، خوبصورت وضع یا کاٹھی، چھریرا پن، چابکدستی، تیز فہمی، پھرتی، تیزی، سبک رفتاری، چستی، چالاکی۔

رشم: اَرَشَمَ ـُ رَشْمًا: لکھنا۔ ــ بیدرَ الحنطة: (گندم) غلہ کے انبار پر مہر لگانا۔رَشَّمَ: لکھنا۔ اَرْشَمَ و اِرْتَشَمَ الاناءَ: برتن پر مہر لگانا۔الرَشْم: گندم کے ڈھیر پر مہر لگانا، زمین پر بارش کا اثر، ہر چیز کا اثر۔الرَشَمُ: زمین پر بارش کا اثر، ہر چیز کا اثر، بچہ کے چہرہ کی سیاہی۔الرَوْشَم و الرَاشُوم: کندہ تختی جس سے غلہ کے انبار پر مہر لگائی جائے۔ الرُشْمَة: بچہ کے چہرہ کی سیاہی۔الأَرْشَم: داغ دار، کتا۔

۲ رَشِمَ ـَ رَشَمًا: کھانے کی خوشبو پر کھانے کی خواہش کرنا۔ صفت اَرْشَم۔

۳ أَرْشَمَ الشجرُ: درخت کا پتے لانا۔ ــ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ ــ ت الارضُ: زمین کا سبزہ اگانا۔ ــ ت الماشيةُ: جانور کا شروع کا سبزہ چرنا۔الرَشَم (ز): پہلے پہلے پھوٹنے والا سبزہ۔الأَرْشَم من الغيث: تھوڑی بارش۔ عامٌ اَرْشَم: وہ سال جو بخوبی فراخی و ارزانی کا نہ ہو۔

۴ الرَشْمَة: گھوڑے اور دوسرے جانوروں کے گلے میں باندھنے کا لوہے وغیرہ کے آویزوں سے مرصع پٹہ، رسی۔

○ رَشَمَ ـُ رَشْمًا ہ: پر نشان لگانا، کو معین کرنا۔ ــ ہ: پر مہر لگانا۔رَشَمَ بصليب على: پر صلیب کا نشان بنانا۔رَشَمَ الصليبَ: صلیب کا نشان بنانا۔رَشْم جمع رُشُوم و رُشُومات: صلیب کا نشان، اصطباغ، بپتسمہ۔رَشْمَة: چاندی وغیرہ کے آویزوں سے مرصع جانور کے گلہ کا پٹکا، اونٹ کے گلے کا پٹہ، رسی۔

رشن: رَشَنَ ـُ رَشْنًا و رُشُونًا: بن بلائے آنا، ناخواندہ مہمان بننا۔ ــ الكلبُ في الإناء: کتے کا برتن میں سر ڈالنا۔الرَاشِن (فا): بن بلائے آنے والا مہمان، شاگرد کو دیا جانے والا وظیفہ، عوام اس کو حُلْوَان کہتے ہیں۔الرَوْشَن و الرَوْشَن: پانی نکلنے کا دہانہ۔ الرَوْشَن جمع رَوَاشِن: روشندان (فارسی لفظ)۔

○ راشِن: بخشش، انعام۔

رشا: اَرَشَا ـُ رَشْوًا ہ: کو رشوت دینا۔رَاشَى مُراشاةً فلانًا: کو رشوت دینا، کی مدد کرنا۔تَرَشَّى الرجلَ: کے ساتھ نرمی برتنا۔اِرْتَشَى: رشوت لینا۔ ــ منه رشوةً: سے رشوت لینا۔اِسْتَرْشَى في حُكْمِهِ: فیصلہ پر رشوت طلب کرنا۔الرُشْوَة و الرَشْوَة والرِشْوَة جمع رُشًى و رِشًى: رشوت۔

۲ اَرْشَى الدلوَ: ڈول میں رسی ڈالنا۔ ــ الشجرُ: درخت کی ٹہنیوں کا دراز ہونا۔الرِشاء جمع اَرْشِيَة: رسی، ڈول کی رسی۔ کہا جاتا ہے اَتْبِعِ الدلوَ رِشاءَها: ڈول کے پیچھے رسی کو جانے دو۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے، جب ایک کو دوسرے کی اتباع کرانا مقصود ہو۔اَرْشِيَةُ النباتِ: نباتات کی بیلیں۔الرَشَاة جمع رَشًا (ن): ایک پودے کا نام۔اِسْتَرْشَاء: ڈول کی رسی۔

۳ اَرْشَى القومُ في دمه: کسی کے خون میں شریک ہونا۔اَرْشَوا بسلاحهم فيه: کے مقابلہ میں ہتھیار نکالنا۔

۴ اِسْتَرْشَى الفصيلُ: اونٹ کے بچے کا دودھ پینے کی خواہش کرنا۔ ــ ما في الضرع: تھن سے دودھ نکالنا۔الرَشِيّ: اونٹ کا بچہ۔

○ رَشَا ـُ رَشْوًا ہ: کو رشوت دینا۔اِرْتَشَى: رشوت لینا، بدعنوان ہونا، ضمیر فروش ہونا۔رَشْو: رشوت، رشوت ستانی، بدعنوانی۔رِشْوَة و رُشْوَة و رَشْوَة جمع رِشًا و رُشًى و رَشَاوِي: رشوت، رشوت ستانی، بدعنوانی، بد دیانتی، بے ایمانی، خیانت۔رِشَاء: رسی، کوئیں کی رسی۔اِرْتِشاء: زر پرستی، ضمیر فروشی، بدعنوانی کی طرف میلان، رشوت ستانی، بدعنوانی۔

رصّ: اَرَصَّ ـُ رَصًّا الشيءَ: چیز کے ایک حصہ کو دوسرے سے چمٹانا، ملانا۔ صفت مفعول مَرْصُوص و رَصِيص۔ رَصَّصَ ہ: چیز کے ایک حصہ کو دوسرے حصے سے چمٹانا، ملانا، پر سیسے کی قلعی کرنا۔تَرَصَّصَ و اِرْتَصَّ: پیوستہ ہونا، جڑنا۔تَرَاصَّ القومُ: ایک دوسرے سے جڑنا، ملنا۔الرَصَص: دانتوں کی پیوستگی۔الأَرَصّ مونث رَصَّاء جمع

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رُصّ: پیوستہ اور جڑے ہوئے دانتوں والا ـأَرَصُّ
رَصّاءُ: ران سے جڑی ہوئی ران ـالرَّصَاص واحد رَصَاصَة (ك): سیسہ، (بندوق وغیرہ کی) گولیاں ـالرَّصَاصِیّ: سیسے کے رنگ والا۔
الرَّصِیص مؤنث رَصِیصَة جمع رَصَائِص: ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے رُصَّتْ عَلَی القبرِ الرَّصَائِصُ: قبر پر پتھروں کا انبار لگ گیا۔
المَرْصُوصُ من البُنیان: مضبوط عمارت ـالرَّصَّاصَة: جاری چشمہ کے اردگرد کے پتھر۔
۲ رَصَّصَ الرجلُ: سوال میں اصرار کرنا۔
۳ الأُرْصُوصَة: ایک قسم کی کلاہ ـالرَّصَّاصَة: بخیل، کنجوس۔
۴ رَصْرَصَ البناءَ: عمارت کو مضبوط کرنا ـ فی المکان: کسی جگہ ٹھہرنا، رہنا ـالرَّصْرَاصَة: سخت زمین، جاری چشمہ کے اردگرد جڑے ہوئے پتھر۔
○ رَصَّ ـ رَصًّا ہ: کو بھینچنا، دبانا، کسنا، کس کر جوڑنا، مضبوطی سے لگانا، کو زمین میں ٹھونسنا، زور سے زمین میں گھسیڑنا، کے انبار لگانا، کا ڈھیر لگانا، کو آپس میں جوڑنا، کی صف بندی کرنا، قطار بندی کرنا، کو سیدھ میں لانا، کو پہلو بہ پہلو ترتیب دینا ـرَصَّصَ ہ: کو کس کر جوڑنا، دبانا، کسنا، بھینچنا، کو کس کر جوڑنا، مضبوطی سے لگانا، کو سیسہ سے ڈھکنا، یا پر سیسہ کی قلعی کرنا۔
تَرَاصَّ: آپس میں دبنا، بندھنا، ہجوم ہونا، ٹھیک پیوست یا اچھی طرح چنا یا جما ہوا ہونا یا ہو جانا۔
رَصَاص: سیسہ، سندور، شنگرف، سرمہ یا سکہ، (بندوق وغیرہ کی) گولیاں قَلَمُ رَصَاص: پنسل رَصَاصَة: گولی، چھرا، (آٹے کاغذ وغیرہ کی بنائی ہوئی) گولی رَصَاصِیّ: سیسہ کی، سیسہ کی بنائی ہوئی، سیسے کے رنگ کا، سیسے جیسا بھاری، ہلکے خاکستری رنگ کا۔
رَصِیص: بھینچا ہوا، سکیڑا ہوا، اچھی طرح باندھا ہوا، خوب جکڑا ہوا، ہجوم سے رکا یا بند کیا ہوا، ٹھیک پیوست کیا ہوا، اچھی طرح چنا یا جما ہوا تَرَاصّ: چسپیدگی۔
رصح: رَصِحَ ـ رَصَحًا: قریب رانوں والا ہونا۔ صفت أَرْصَح۔
رصخ: رَصَخَ فی الامر: کام میں ماہر ہونا۔
رصد: رَصَدَ ـ رَصْدًا و رَصَدًا ہُ: کا انتظار کرنا، کی گھات میں بیٹھنا ـ اَرْصَدَہُ: کی نگرانی کرنا ـ رَصَدَ الرقیبَ: رقیب کو راستہ میں گھات لگانے کے لئے کھڑا کرنا ـ لہُ شیئاً: کے لئے کچھ تیار کرنا، مہیا کرنا ـ لہُ خیراً او شراً: کو بھلائی یا برائی کا بدلہ دینا ـ تَرَصَّدَہُ: کا انتظار کرنا ـ لہ: کی گھات میں بیٹھنا ـ تَرَاصَدَ الرجلان: ایک دوسرے کی گھات میں بیٹھنا ـ اِرْتَصَدَہُ: کا انتظار کرنا ـالرَّصَد جمع اَرْصَاد: راستہ، گھات میں بیٹھنے والے جیسے چوکیدار، نوکر چاکر (واحد جمع مذکر ومؤنث سب کے لئے یکساں آتا ہے)، کبھی جمع میں اَرْصاد بھی کہتے ہیں۔
الراصِد (فا) جمع رُصَّد و رَصَد: نگہبان، شیر، گھات میں بیٹھنے والا ـالرَّصِید: گھات میں رہنے والا ـالرَّصُود: پانی پینے کے لئے اپنی باری کا انتظار کرنے والی اونٹنی ـالرُّصْدَة: شیر وغیرہ کے شکار کے لئے کھودا ہوا گڑھا ـالمَرْصَد جمع مَرَاصِد: گھات میں بیٹھنے کی جگہ ـمَرَاصِدُ الحیّات: سانپوں کے چھپنے کی جگہیں ـالمِرْصَاد جمع مَرَاصِید: گھات لگانے کی جگہ، راستہ۔
۲ رُصِدَ المکانُ: کسی جگہ بارش کی بوچھاڑ پڑنا۔ صفت: مرصود۔ الرَّصْد جمع اَرْصَاد: تھوڑی بارش یا گھاس ـالرَّصْدَة جمع رِصَاد: بارش کی بوچھاڑ۔ ارضٌ مُرْصِدَةٌ: زمین جہاں کچھ گھاس ہو۔
۳ اَرْصَدَ الحسابَ: حساب پیش کرنا، ظاہر کرنا، شمار کرنا ـ رَصِیدُ الحساب (ت): ہر حساب کے بعد باقی رقم۔
۴ الرُّصْدَة: تلوار کے پرتلے کا حلقہ۔
○ رَصَدَ ـ رَصْدًا ہ/ہُ: پر نگاہ رکھنا، کی گھات میں بیٹھنا ـ ہ: کو بغور دیکھنا، کا مشاہدہ کرنا، کی نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا، کو قابو میں رکھنا، جادو کے زور سے (بدروح) کو بلانا ـ رَصَدَ الافلاکَ: ستاروں کا مشاہدہ کرنا، فلکی ہیئت دانی کرنا ـ رَصَّدَ ہ: مالی وسائل (فنڈ) مہیا کرنا، مخصوص کرنا، الگ کرنا، کو تیار کرنا، تیار رکھنا ـ الحسابَ: آمد و خرچ کا گوشوارہ بنانا ـ اَرْصَدَ ہ: کو تیار رکھنا ـ ہ ل: مالی وسائل (فنڈز)، (خصوصا) کیلئے مہیا کرنا، الگ کرنا، مخصوص کرنا، کو حاصل کرنا۔ تَرَصَّدَ الافلاکَ: ستاروں کا مشاہدہ کرنا، فلکی ہیئت دانی کرنا ـ رَصَد و رَصْد جمع اَرْصَاد: مشاہدہ۔ رصد الافلاک: ستاروں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، ستاروں کا علم، علم ہیئت ـ اَرْصَادٌ جَوِّیَّة: موسمیاتی مشاہدہ، تقریر الارصاد: موسمی اطلاع، خبر ـ رصد خانہ: رصدگاہ ـ رَصَد جمع اَرْصَاد: جاسوس، ناظر، نگران، نظر رکھنے کی جگہ، مشاہدہ کی چوکی، کمین گاہ، تعویذ ـ رَصَّادُ الجَوّ: موسمیات کے علم کا ماہر، عالم حوادث سماوی ـ رَصِید جمع ارصدة: موجود مال، تجارت، دستیاب مالی وسائل (فنڈز)، جمع خرچ کا حساب، ... قابل ادا ...
بدون رصید: چیک اس رقم کا جو بنک میں جمع نہ ہو، مالی وسائل سے زائد کا چیک ـمَرْصَد جمع مَرَاصِد: رصدگاہ ـمَرْصَد جَوِّی: دفتر یا مرکز موسمیات ـمِرْصَد: دوربین ـمِرْصَاد: مشاہدہ کی چوکی، یا جگہ، کمین گاہ ـوَقَفَ بالمِرصاد: گھات میں بیٹھنا ـکان منہ بالمرصاد یا وقف لہ بالمرصاد: کے لئے گھات میں بیٹھنا، کو راستہ میں روکنا، کی رہزنی کرنا ـ راصِد: رجسٹری کرنے والا جمع رُصَّاد: جاسوس، ناظر، نگران ـ حزینة راصدة: کیش رجسٹر ـ راصِدة فلکیة: دوربین ـ مَبْلَغ مَرْصُود: ضمانت کفالت، وثیقہ، ہنڈی۔
رصع: رَصَعَ ـ رَصْعًا ہُ بیدہ: کو تھپڑ مارنا ـ ہ بالرمح: کو زور سے نیزہ مارنا ـ السنانَ فی المطعون: نیزہ کے بھالے کو زخمی کے اندر غائب کر دینا ـ اَرْصَعَہُ بالرمح: کو زور سے نیزہ مارنا۔ طعنٌ أَرْصَع: پورا چھدا ہوا نیزہ۔
۲ رَصَعَ ـ رَصْعًا الحبَّ: دانہ کو دو پتھروں کے درمیان کوٹنا ـ اِرْتَصَعَ الحبَّ: دانہ کو دو پتھروں کے درمیان کوٹنا ـالرَّصِیعَة جمع رَصَائِع: کوٹے ہوئے دانے۔
۳ رَصَعَ ـ رُصُوعًا بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا ـ رَصِعَ ـ رَصَعًا بالطیب: خوشبو سے مہک جانا ـ بالشیء: کسی چیز سے چپکنا ـ رَصَّعَ الشیءَ: چیز کا اندازہ کرنا، چیز کو بننا۔ کہا جاتا ہے: رَصَّعَ الطائرُ عُشَّہُ بالقضبان: پرندے نے اپنے گھونسلے کو تنکوں کو جوڑ کر بنایا ـ الذهبَ بالجواهر: سونے میں ہیرے موتی جڑنا۔ کہا جاتا ہے تاج مُرَصَّعٌ بالجواهر: ہیرے موتی جڑا ہوا تاج ـ العِقدَ بالجواهر: ہار میں جواہر پرونا ـ تَرَصَّعَ: جڑاؤ ہونا ـ تَرَصَّعَ بہ: سے چپکنا ـ ت اَسْنانُہ: کے دانتوں کا پیوستہ و برابر ہونا ـالرَّصِیعَة جمع رَصَائِع: لگام کی گرہ، تلوار یا زین وغیرہ کا حلقہ یا گول زیور۔
۴ تَرَصَّعَ: خوش ہونا، چست ہونا ـالأَرْصَع: لاغر سرین والا۔
○ رَصَّعَ ہ ب: کسی چیز میں (سونے، قیمتی پتھر وغیرہ) سے منبت کاری کرنا، میں (جواہرات وغیرہ) لگانا، جڑنا، کو سے آراستہ کرنا، سجانا، کی سے آرائش کرنا، کو سے آراستہ پیراستہ کرنا، مزین کرنا، کی سے زینت بنانا، زیبائش کرنا، کو سے خوبصورت یا خوشنما بنانا، کو سے مرصع کرنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رصف ا۔ رَصَفَ ـُ رَصْفًا الحجارةَ: پتھروں کوایک دوسرے سے جوڑنا۔ ــــ المُصَلِّي قَدَمَيهِ او بين قدميه: نمازی کا اپنے قدموں کو قریب قریب رکھنا یا ایک کو دوسرے سے ملانا۔ ــ السهمَ: تیر کو پٹھے سے باندھنا، جو چھڑ میں تیر کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هذا الامرُ لا يَرْصَفُ بِكَ: یہ کام تمہارے لائق نہیں۔ رَصُفَ ـُ رَصَافةً العملُ: کام کا مضبوط ہونا یا پائیدار ہونا۔ رَصِفَ ـَ رَصَفًا و رَصِفَ رَصْفًا ت اسنانُهُ: دانتوں کا پیوستہ و ہموار ہونا۔ تَرَصَّفَ و تَرَاصَفَ و اِرْتَصَفَ ت الحجارةُ: پتھروں کا ایک دوسرے بالترتیب ملا ہوا ہونا۔ ــ القومُ في الصفّ: لوگوں کا صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا۔ ــــ ت أسْنَانُهُ: کے دانتوں کا برابر و ہموار ہونا۔ الرَّصَف واحد رَصَفَة: پانی کے بہنے کی جگہ میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے پتھر، پانی کے لئے بنایا ہوا پشتہ۔ الرَّصَفَتَان (ع ا): گھٹنے کی ہڈیوں کے پٹھے، گھٹنے۔ الرِصَاف جمع رَصَف و رُصُف: پہلو کی ہڈیاں، پٹھا جو چھڑ میں تیر کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے، گھوڑے کا پٹھا۔ الرَّصِيف: پتھروں سے فرش کئے ہوئے راستہ کی ایک طرف (فٹ پاتھ، پٹری)۔ عملٌ رصيف: پختہ و مضبوط کام۔ الرُّصُوفَة: استقلال، ثابت قدمی، پائیداری۔ الرُّصَافة: پٹھا جو چھڑ میں تیر کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ المِرْصَافَة: ہتھوڑا۔

۲۔ أرْصَفَ شراب میں پہاڑی چشمہ کا پانی ملانا۔ ماءُ الرَّصَف: پہاڑ سے چٹان پر گرنے والا پانی جو صاف ہو جاتا ہے۔

۳۔ الرَّصِيف: نظیر، دوست۔ الرُّصَافة: جوانب شہر کا سبزہ زار عام طور پر بغداد کے ایک محلّہ کا نام۔

○ رَصَفَ ـُ رَصْفًا ہ: کی فرش بندی کرنا، پر فرش لگانا، پر پتھر بچھانا۔ رَصُفَ ـُ رَصَافةً: مضبوطی سے جڑا ہوا ہونا۔ رَصَّفَ ہ: کی فرش بندی کرنا، پر فرش لگانا، پر پتھر کی سلیں بچھانا۔ رَصْف: فرش بندی۔ رَصِيف: مضبوطی سے جوڑا ہوا، مضبوط، ٹھوس، ٹھیک پیوست کیا ہوا، اچھی طرح چنا یا جمایا ہوا (جمع أرْصِفَة): پختہ فرش والی جگہ، پکا فٹ پاتھ، پیادہ رو، پٹری، گھاٹ، مال گودی، گودی، پل کا پایہ یا ستون، پتھر کا بند، مصنوعی بندرگاہ، حفاظتی بند، بندرگاہ سے جہاز تک جانے والا پل، پلیٹ فارم (جمع رُصَاف)، رفیق کار۔ رصيف المحطة: (ریلوے) پلیٹ فارم۔ رصيف لاعمال الحفر في البحر: ساحل کے قریب برے سے سوراخ کرنے کے لئے بنایا ہوا پلیٹ فارم۔ عَوَائِدُ الرصيف: مال گودی کا کرایہ۔ رَصِيفَة جمع رَصِيفات: عورت رفیق کار۔ رصيفتنا الغراء: ایک اخبار کا دوسرے اخبار کے ذکر پر کہنا: ہمارے معزز دوست۔ رَصَافة: مضبوطی، پیوستگی، متانت، چستی، گاڑھا پن، گھنا پن۔ مَرْصُوفٌ بِ: سے فرش بندی کیا ہوا۔

رصن: ا۔ رَصَنَ ـُ رَصْنًا الامرَ: کو پورا کرنا، مضبوط کرنا۔ رَصُنَ ـُ رَصَانةً العقلُ وغيرُهُ: عقل وغیرہ کا پختہ، مضبوط یا سنجیدہ ہونا، ثابت قدم رہنا، صفت: رَصِين۔ رَصَنَ الشيءَ معرفةً: چیز کو بخوبی سمجھنا، جاننا۔ کہا جاتا ہے: رَصِّنْ لي هذا الخبرَ: میرے لئے اس خبر کی تحقیق کرو۔ أرْصَنَ هُ: کو مستحکم کرنا، مکمل کرنا۔

۲۔ رَصَنَ ـُ رَصْنًا هُ بلسانِهِ: کو گالی دینا۔

۳۔ رَصَنَ ـُ رَصْنًا الدابّةَ: جانور کے داغ لگانا، کو داغنا۔ المِرْصَن: جانوروں کو داغنے کا لوہا۔ الرَّصِين: دکھی، دردمند۔

۴۔ الرَّصَن (ن): ایک پودے کا نام۔ الرَّصِين: اپنے ساتھی کی ضرورت کو خوش آمدید کہنے والا یا اس کی ضرورت کا خیر مقدم کرنے والا۔

○ رَصُنَ ـُ رَصَانةً: مضبوط ہونا، قوی ہونا، سنجیدہ ہونا، متین ہونا، خاموش ہونا، جذبات پر قابو پائے ہونا۔ رَصِين: مضبوط، غیر متزلزل، سنجیدہ، متین، خاموش، جذبات پر قابو پائے ہوئے۔ رَصَانة: سنجیدگی، متانت، سکون، دلجمعی، اطمینان، خامشی، سکوت، ٹھہراؤ۔

رصا: رَصَا ـُ رَصْوًا الشيءَ: کو مضبوط کرنا، پکا کرنا۔ أرْصَى بالمكان: کسی جگہ رہ پڑنا، جم کر رہنا۔

رَضّ ا۔ رَضَّ ـُ رَضًّا هُ: کو کوٹنا، دلنا۔ رَضَّضَ الشيءَ: کو خوب کوٹنا، خوب دلنا۔ تَرَضَّضَ: کوٹا جانا، دلا جانا۔ أرَضَّ التعبُ العرقَ: تکان کا پسینے کو بہا دینا۔ اِرْتَضَّ الشيءُ: ٹوٹنا۔ الرُّضَاض: ٹوٹی ہوئی چیز کے ٹکڑے۔ الرَّضِيض: کوٹا ہوا، دلا ہوا۔ المِرَضَّة: کوٹنے یا دلنے کا آلہ۔

۲۔ أرَضَّ بوجھل و سست رفتار ہونا۔ الرَّضّ والمُرِضَّة والمِرَضَّة (ط): گٹھلی نکالی ہوئی اور دودھ میں بھگوئی ہوئی کھجوریں۔ الأرَضّ: جم کر بیٹھنے والا۔

۳۔ أرَضَّ تیز دوڑنا۔ ــ في الارض: زمین میں جانا۔

۴۔ رَضْرَضَ هُ: کو پوری طرح نہ کوٹنا۔ تَرَضْرَضَ الحجرُ: پتھر کا ٹوٹنا، بغیر ٹھہرے متحرک ہونا۔ الرَّضْرَاض: چھوٹی باریک کنکریاں۔ ــــ مونث رَضْرَاضَة: بہت گوشت والا یا پر گوشت آدمی۔ الرَّضْرَاضَة: بغیر رکے زمین پر حرکت کرنے والے پتھر۔

○ رَضَّ ـُ رَضًّا ہ: کو مسلنا، پیسنا، کچلنا، جسم کے (ایک حصہ) کو زخمی کرنا، خراش ڈالنا، رگڑنا۔ رَضّ جمع رُضُوض: رگڑ، خراش، گجی مار، گپت مار۔ رضيض: مسلا ہوا، پسا ہوا، کچلا ہوا، خراش ڈالا ہوا، رگڑ پہنچایا ہوا، زخمی کیا ہوا۔ رَضْرَضَ ہ: کو توڑ کر اس کے کھردرے ٹکڑے کرنا، کو کچلنا، مسلنا، پیسنا، رگڑنا۔ رَضْرَاض: سنگ ریزے، بجری، کنکر۔

رضب: ا۔ رَضَبَ ـِ رَضْبًا و تَرَضَّبَ الريقَ: تھوک چوسنا۔ الرُّضَاب: چوسا ہوا تھوک، شہد کا لعاب اور جھاگ۔ المَرَاضِب و المَرَاضِيب: خوش مزہ تھوک۔

۲۔ رَضَبَ ـِ رَضْبًا و أرْضَبَ المطرُ: بارش کا زور سے برسنا۔ ــ ت السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ الرَّاضِب (فا) من المطر: موسلا دھار بارش، زور کی بارش۔ الرُّضَاب: اولے، برف اور شکر وغیرہ کے ٹکڑے، مشک کے کھیرے و ریزے۔ ماءٌ رُضَابٌ: میٹھا پانی۔

○ رُضَاب: تھوک، لعاب دہن۔

رضح: ا۔ رَضَحَ ـَ رَضْحًا النوى او الحَصَى: گٹھلی یا کنکر توڑنا۔ ــ رأسَهُ بالحجر: کے سر کو پتھر سے کوٹنا، دلنا۔ تَرَضَّحَ الحَصَى: کنکری کا ٹوٹنا۔ ــ الخبزَ: روٹی کو توڑنا۔ الرُّضَح: گٹھلی۔ الرَّضْح: تھوڑی بخشش۔ کہا جاتا ہے: بَلَغَنَا رَضْحٌ من خبرٍ: ہمیں تھوڑی سی خبر معلوم ہوئی۔ الرَّضِيح: ٹوٹی ہوئی گٹھلی۔ الرَّضْحَة جمع رِضَاح: توڑتے وقت پتھر کے نیچے سے اڑ کر جانے والی گٹھلی۔ کہا جاتا ہے: وقعت رَضْحَةٌ من المطر: تھوڑی سی بارش ہوئی۔ المِرْضَاح: وہ پتھر جس سے گٹھلیاں توڑی جائیں۔

۲۔ تَرَاضَحُوا بالنشّاب: ایک دوسرے کو تیر مارنا۔

۳۔ اِرْتَضَحَ من الامر: کام کا عذر کرنا۔

رضخ: ا۔ رَضَخَ ـَ رَضْخًا النوى او الحصى: گٹھلیاں یا کنکر توڑنا۔ تَرَضَّخَ الحَصَى: کنکر کا ٹوٹنا۔ ــ الخبزَ: روٹی توڑ کر کھانا۔ الرَّضِيخ: ٹوٹی ہوئی گٹھلی۔ المِرْضَاخ جمع مَرَاضِيخ و المِرْضَخَة: وہ پتھر جس سے یا جس پر گٹھلیاں توڑی جائیں۔

۲۔ رَضَخَ ـَ رَضْخًا لهُ مِن ماله رَضْخَةً: کسی کو اپنے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بہت سے مال میں سے تھوڑا سا دینا۔ رَاضَخَ الشیءَ: کو کچھ با دل نا خواستہ دینا۔ ــــ منه شیئًا: کسی سے کچھ پانا، حاصل کرنا۔ اَرْضَخَ للرجل: کو اپنے بہت (سے مال) میں سے تھوڑا سا دینا۔ الرَّضْخ: تھوڑی بخشش۔ الرَّضَاخَة و الرَّضِیْخَة: تھوڑی بخشش۔

۳۔ رَضَخَ ۔رَضَخَات التیوسُ: مینڈھوں کا ایک دوسرے کو سینگ مارنا۔ رَاضَخَ ہٗ: ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔ تَرَاضَخَ القومُ بالحجارة: ایک دوسرے پر پتھر برسانا، ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔

۴۔ رَضَخَ ۔رَضْخًا له: کی فرمانبرداری کرنا۔ ــــ للحق: حق مان لینا، حق پر یقین لانا۔

۵۔ تَرَضَّخَ الخبرَ: خبر سن کر اس پر یقین نہ کرنا۔ اِرْتَضَخَ: کہا جاتا ہے۔ فلان یَرْتَضِخُ لُکْنَةً اعجمیةً: فلاں شخص اجنبی لہجہ میں عربی بولتا ہے۔ الرَّضْخ: غیر یقینی خبر۔

○ رَضَخَ ۔رَضْخًا ہ: کو توڑنا، توڑ پھوڑ ڈالنا، تہس نہس کرنا، پاش پاش کرنا۔ ــــ ہ: (گری) کو تڑقانا، چٹکانا۔ رَضَخَ ۔رَضْخًا ہٗ: کو چھوٹا، معمولی سا تحفہ دینا۔ ــــ رُضُوخًا ل: کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کے آگے سر تسلیم خم کرنا، سے مغلوب ہونا، کا ماتحت بن جانا۔ رَضْخ و رَضْخَة: چھوٹا، معمولی سا تحفہ۔ رَضِیْخَة: چھوٹا، معمولی سا تحفہ، بخشش، انعام۔ رُضُوخ: فرمانبرداری، اطاعت، سپر اندازی، قبول اطاعت، کسی کی بات مان لینا، کسی کی خواہش کے آگے جھک جانا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، تعمیل (حکم کی)۔ ــ ل: کی ہمدردانہ مفاہمت۔ مِرْضَاخ: سروتا۔

رضد: رَضَدَ ۔رَضْدًا المتاعَ: سامان کو چننا، ترتیب سے رکھنا۔ اِرْتَضَدَ المتاعُ: سامان کا چنا جانا، ترتیب سے رکھا جانا۔

رضع: ا۔ رَضِعَ ۔و رَضَعَ ۔رَضْعًا و رَضَعًا و رَضِعًا و رَضَاعًا و رِضَاعًا و رَضَاعَةً و رِضَاعَةً و اِرْتَضَعَ الولدُ امَّهُ: بچہ کا ماں کا دودھ پینا۔ صفت: راضِع جمع رُضَّع: کہا جاتا ہے: فلان یرضع الدنیا و یذمّها: فلاں شخص دنیا کا دودھ پیتا ہے اور اس پر تنقید بھی کرتا ہے۔ رَاضَعَ رِضَاعًا و مُرَاضَعَةً ہٗ: دودھ شریک بھائی کے ساتھ دودھ پینا۔ ــــ ابنَهٗ: بچہ دودھ پلانے والی کو دینا۔ ــــ الطفلُ: بچہ کا اپنی حاملہ ماں کا دودھ پینا۔ اَرْضَعَ ہٗ: کو دودھ پلانا۔ ــــ ت المرأةُ: دودھ پیتے بچے والی ہونا۔ صفت: مُرْضِع: (اس میں تاء تانیث نہیں لگاتے کیونکہ یہ صفت اناث کے لئے مخصوص ہے۔ البتہ جب وہ بچہ کے منہ میں پستان دیتی ہے تو اس کو مُرْضِعَة کہتے ہیں۔ جمع مُرْضِعات و مَرَاضِع۔ اِسْتَرْضَعَ: دودھ پلانے والی کو تلاش کرنا یا بچہ کو دودھ پلانا چاہنا۔ کہا جاتا ہے: استرضعتُ المرأةَ ولدی: میں نے عورت سے اپنے بچہ کو دودھ پلانے کی درخواست کی۔ الرَّاضِع: دودھ والی۔ الراضِعَة جمع رَوَاضِع: رَاضِع کا مؤنث۔ الرَّاضِعَتَانِ جمع رَوَاضِع: بچہ کے سامنے کے دو دانت۔ الرَّضِیع جمع رُضَعاء و الرَّضِع جمع رُضُع: بمعنی الرَّاضِع رَضِیعُكَ: تیرا دودھ شریک بھائی اور تو اس کا دودھ شریک بھائی ہے اور تم دونوں رضیعان (دودھ شریک بھائی) ہو لہٰذا مشارکت کی بنا پر المُرَاضِع (دودھ شریک بھائی کے ساتھ دودھ پینے والا) کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی سے ہے: فلانٌ رضیعُ اللؤم: فلاں شخص کمینہ ہے۔ هم رُضَعاءُ اللؤم: وہ کمینے ہیں۔ الرَّضَّاع: بہت دودھ پینے والا۔ الرَّضَاعَة والرِّضَاعَة: دودھ پلانا (بچہ کو ماں کا)۔ الرَّضُوعة: اپنے بچہ کو دودھ پلانے والی عورت۔

۲۔ رَضَعَ ۔رَضَاعَةً: کمینہ ہونا صفت: رَاضِع جمع رُضَّع۔ الرَّضَع: کمینہ پن۔ الرَّاضِع (فا): کمینہ، لوگوں سے سوال کرنے والا۔ الرَّضِیع جمع رُضَعَاء و الرَّاضِع جمع رُضَّع: کمینہ۔ الرَّضَّاع: کمینہ۔ المَرَاضِیع: کمینے۔

۳۔ الرَّضَع واحد رَضَعَة (ح): شہد کی مکھی کے چھوٹے بچے۔ الرَّضَاعَة: پچھوائی اور دکنی ہواؤں کے درمیان کی ہوا۔

○ رَضِعَ ۔و رَضَعَ ۔رَضْعًا و رَضَاعًا و رَضَاعَةً ثدیَ اُمِّهِ: بچہ کا اپنی ماں کے پستان سے دودھ پینا، ماں کا دودھ پینا۔ رَضَّعَ و اَرْضَعَ ہ: بچہ کو ماں کا دودھ پلانا، پستان کا دودھ پلانا۔ رَضِیع جمع رُضَعَاء و رَضَائِع: دودھ پینے والا بچہ، شیر خوار بچہ، رضاعی بھائی۔ رَضَّاعَة جمع رَضَّاعَات: بچہ کے دودھ کی بوتل۔ رِضَاع: رضاعی رشتہ داری۔ رَاضِع جمع رُضَّع: ماں کا دودھ پینے والا، دودھ پیتا بچہ، شیر خوار بچہ، بچہ، چھوٹا، چھوٹے بچوں کا یا چھوٹے بچوں کے لئے۔ مُرْضِع و مُرْضِعَة جمع مَرَاضِع: انا، دایہ، دوسرے کے بچہ کو دودھ پلانے والی، رضاعی ماں۔

رضف: ا۔ رَضَفَ ۔رَضْفًا اللبنَ: دودھ کو گرم پتھر گرم کرنا۔ ــ ہٗ: کو داغنا۔ ــ اللحمَ: گوشت کو گرم پتھر پر بھوننا۔ رَضَّفَ ہٗ: کو غصہ دلا کر آگ بگولا کرنا۔ الرَّضْف واحد رَضْفَة: گرم پتھر۔ کہا جاتا ہے: هو علی الرَّضْف: وہ رنجیدہ ہے۔ الرَّضَفَة جمع رَضَف و رَضَفَات: گھٹنے کی چپنی، گرم پتھر سے لگایا ہوا داغ۔ الرَّضِیف: گرم پتھر (ط): گرم پتھروں پر بھونا ہوا گوشت، گرم پتھر ڈال کر گرم کیا ہوا دودھ۔ المَرْضُوف (ط): گرم پتھروں پر بھنا ہوا گوشت۔ الرَّضِیْفَة: گرم پتھروں سے گرم شدہ دودھ۔ کہتے ہیں: شربتُ الرَّضیفة: میں نے پتھروں سے گرم کیا ہوا دودھ پیا۔ ــ والمَرْضُوفَة: جگالی کرنے والے جانور کی اوجھ جسے دھو اور صاف کر کے سفر میں ساتھ لیجاتے ہیں اور ہانڈی نہ ہو تو گوشت کے ٹکڑے کر کے اوجھ میں ڈالتے ہیں اور پتھر گرم کر کے اوجھ میں اس وقت تک ڈالے رکھتے ہیں جب تک گوشت کے ٹکڑے پک نہ جائیں۔ المِرْضَافة: داغ لگانے کا آلہ، داغنے کا آلہ۔

۲۔ الرَّضْف واحد رَضْفَة: گھٹنے کی ہڈیاں۔ ضرب المثل میں کہتے ہیں: خُذْ من الرَّضْفَة ما علیها: کنجوس سے تھوڑا ہی لیلو۔ الرَّضْفَة (ع ا): گھٹنے کی چپنی۔ عام لوگ اسے صابونة الرکبة کہتے ہیں۔

رضم: ا۔ رَضَمَ ۔رَضْمًا البیتَ: گھر کو بڑے بڑے پتھروں سے بنانا۔ (رَضِیم و رضوم: بڑے بڑے پتھروں سے بنایا ہوا گھر)۔ ــ المتاعَ: سامان کو ترتیب سے رکھنا، تہہ بتہ چننا۔ ــ علیه الصخرَ: پر بڑے پتھر ڈالنا۔ ــ الشیءَ: کو توڑنا۔ اِرْتَضَمَ المتاعُ: سامان کا تہ بتہ ہونا۔ الرَّضْم واحد رَضْمَة والرَّضَم والرِّضَام: بڑے بڑے پتھر جو عمارتوں میں اوپر تلے چنے جاتے ہیں۔

۲۔ رَضَمَ ۔رَضْمًا و رَضَمَانًا بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔

۳۔ رَضَمَ ۔رَضْمًا الأرضَ: زمین جوتنا۔ ــ رَضْمًا و رَضَمَانًا فی المشی: سست چلنا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑنا۔

رضا: ا۔ رَضَا ۔رَضْوًا ہٗ: سے خوشنودی اور پسندیدگی میں بڑھ جانا۔ کہا جاتا ہے: رَاضَانی فَرَضَوْتُهٗ: اس نے مجھے شکست دینے کی کوشش کی تو میں نے اسے زیر کرلیا۔ رَضِیَ ۔رِضًا و رِضًا و رُضًی و رِضًی و رُضْوَانًا و رِضْوَانًا و مَرْضَاةً عنه و علیه: سے راضی ہونا، خوش ہونا۔ صفت: رَضٍ جمع رَضُون و رَضِیّ جمع اَرْضِیاء و رُضَاة و رَاضٍ جمع

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رَاضُون و رُضَاۃ۔ ـ الشیءَ و بہ و عنہ: کو پسند کرنا، پر قناعت کرنا۔ صفت: صفت مفعولی: مَرْضِیّ و مَرْضُوّ: کہاجاتا ہے: رَضِیَ اللّٰہُ عن فلانٍ و رُضِیَ عنہ: اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس کو ثواب سے نوازے۔ رُضِیَت معیشتُہ: اس کی زندگی خوشگوار ہے۔ رَضَّی الرجلَ: کو راضی کرنا، عطیہ دے کر راضی کرنا، خوش کرنا۔ رَاضَی رِضَاءً و مُرَاضَاۃً الرجلَ: کی رضامندی طلب کرنا، کا متمنی ہونا، سے پسندیدگی میں مقابلہ کرنا۔ اَرْضَی الرجلَ: کسی کو راضی کرنا، عطیہ دے کر خوش کرنا۔ تَرَضَّی الرجلَ: کی خوشنودگی چاہنا۔ تَرَاضَی القومُ الشیءَ: کسی شے کو قوم کے سارے افراد کا پسند کرنا۔ اِرْتَضَی ہُ لِخدمتِہِ او لصُحْبَتِہِ: کو اپنی خدمت یا سنگ کے لئے پسند کرنا۔ اِسْتَرْضَی ہُ: کی رضامندی طلب کرنا۔ اِسْتَرْضَیْتُہُ: میں نے چاہا کہ وہ مجھے خوش کرے۔ رجل و اِمراۃٌ رِضًی: پسندیدہ مرد وعورت (یہ مفعول کے معنی میں مصدر سے تعریف ہے اس میں مفرد، مثنی جمع مذکر ومونث کے لئے یکساں آتا ہے)۔ الرَضِیّ: عاشق۔ الرِضَاء: خوشنودی۔ الرِضْوَۃ: رضامندی۔ کہاجاتا ہے: ما فعلتُ ذلک الاعن رِضْوَتِہِ: میں نے یہ کام اس کی رضامندی سے ہی کیا ہے۔ عیشۃٌ راضیۃٌ: خوشگوار زندگی۔

۲۔ الرَضِیّ: لاغر، چھریرا۔ رَضْوَی: مدینۂ طیبہ اور ینبع کے درمیان واقع ایک پہاڑ کا نام۔ نسبت کے لئے رَضَوِیّ کہاجاتا ہے۔

ﺳ رَضِیَ ـ رِضًی و رِضْوانًا و مَرْضَاۃً ہ/ب/فی/ پر/ سے مطمئن ہونا، پر صابر، صابر شاکر، قانع اور راضی ہونا، کی اجازت یا منظوری دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، سے متفق ہونا، کو قبول کرنا۔ ـــ ان: یہ حقیقت تسلیم کرنا کہ، قبول کرنا کہ۔ ـــ ہ/علی/عن: کسی بات وغیرہ پر اطمینان یا خوشی محسوس کرنا یا اس کا اظہار کرنا۔ ـ ہ ل: کی کے لئے آرزو کرنا، تمنا رکھنا، کو کے لئے چاہنا۔ رَضِیَ لنفسِہ ب: اپنے لئے کوئی چیز روا رکھنا۔ مارضی لھا المَذَلَّۃَ: اس کی ایسی کوئی خواہش نہ تھی کہ اس عورت کی خودداری کو صدمہ پہنچائے۔ رَضِیَ اَوْ اَبَی: خواہ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ رَضِیَ اللّٰہُ عنہ: اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو۔ رَضِیَ من الغنیمۃِ بالایاب: مال غنیمت کے بغیر واپسی پر قناعت کرنا، اپنی جان بچانے پر خوش ہونا۔ رَضَّی ہ: کو مطمئن کرنا، خوش کرنا، کی دلجوئی کرنا، کو محظوظ کرنا، کو معاوضہ دینا، کی تلافی کرنا، کو عوض دینا، کو کفارہ ادا کرنا۔ رَاضَی ہ: کو مطمئن کرنے کے درپے ہونا، کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، کو منانا، راضی کرنا، کی خوشنودی حاصل کرنا، کو خوش کرلینا، کا دل ہاتھ میں لینا، کو آمادہ کرلینا، اپنے اوپر مہربان کرنا، کی نوازش حاصل کرنا۔ اَرْضَی ہ: کو مطمئن کرنا، خوش کرنا، کی دلجوئی کرنا، کی خواہش پوری کرنا۔ تَرَضَّی ہ: کو مطمئن کرنے کے درپے ہونا، کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، کو منانے، راضی کرنے یا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کو خوش کرنا، منانا، راضی کرنا، کا دل ہاتھ میں لینا، کو ٹھنڈا کرنا، اطمینان دلانا، کی ڈھارس بندھانا، کو تسکین دینا۔ تَرَاضَی: تصفیہ کرلینا، شرائط مان لینا، سمجھوتہ کرنا۔ اِرْتَضَی ہ: سے/پر مطمئن ہونا، پر قناعت کرنا، خوش ہونا، سے متفق ہونا، کی اجازت یا منظوری دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، کو پسند کرنا، کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کو منظور کرنا۔ اِسْتَرْضَی ہ: کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، کی ہمدردی حاصل کرنے، کا دل ہاتھ میں لینے، کی تائید حاصل کرنے، کو طرف دار بنانے، ملانے یا منانے یا راضی کرنے کی کوشش کرنا، کو دھیما کرنا، کا جوش فرو کرنا، کو ٹھنڈا کرنا۔ ـ اپنے آپ کو بامروت مدد کرنے والا ظاہر کرنا، خود کو مقبول بنانا، دل میں گھر کرنا، منظور نظر بننا، عزیز یا مقبول ہونا، مورد عنایات ہونا، نوازش یا کرم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ رِضًی و رِضًا: قناعت، صبر و شکر، اطمینان، خوشی، راحت، حالت اطمینان، تسکین، دلجمعی، رضامندی، سمجھوتہ، مفاہمت، راضی نامہ، منظوری، اجازت، خوشنودی، موافقت، پسند، ہمدردی، نوازش۔ عَن رِضًی: دل سے، خوشی سے، بلا تامل، فوراً۔ سَریعُ الرضی: آسانی سے مان جانے والا، جس کو خوش کرنا آسان ہو۔ رَضِیّ جمع اَرْضِیَاء: مطمئن، رضامند، خوشدل، آسودہ خاطر، صابر، قانع، راضی، خوشگوار، خوش طبع، دلکش، دلپذیر، سہانا۔ بنفس رَضِیَّۃ: خوشی سے، خوش خوش۔ رِضْوان: رضامندی، منظوری، اجازت، خوشنودی، موافقت، سمجھوتہ، مفاہمت، راضی نامہ، پسند، نوازش، مہربانی، کرم، خوشی، سرور۔ مَرْضَاۃ: اطمینان یا تسکین کا ذریعہ، اطمینان، خوشی۔ تَرْضِیۃ: اطمینان، تسکین، معاوضہ۔ رِضَاء: قناعت، خوشی، راحت، حالت اطمینان، اطمینان مفاہمت، منظوری، رضامندی، اجازت، پسند، کفارہ، منت، صدقہ، مصالحت، اتفاق، میل ملاپ۔ بالمُرَاضَاۃِ: منصفانہ ذریعہ سے از راہ لطف، ملنساری سے۔ اِرْضاء: اطمینان، تسکین، (دعوی، خواہش کی) تکمیل۔ صعبُ الاِرضاء: جسے خوش کرنا مشکل ہو، نک چڑھا، تنک مزاج۔ تَرَاضٍ: باہمی رضامندی۔ اِسْتِرْضَاء: مصالحانہ رویہ، صلح جوئی، رضاجوئی، مصالحت۔ اِسْتِرْضَائِی: مصالحت کن، مائل بہ مصالحت، صلح جو، مصالحت آمیز، صلح جویانہ۔ رَاضٍ جمع رُضَاۃ: مطمئن، قانع، اتفاق کرنے والا، رضامندی ظاہر کرنے والا، منظوری دینے والا، (تجویز) مان جانے والا، راضی، رضامند، آمادہ، تیار، خوشگوار، سہانی یا دل پذیر (زندگی)۔ مُرْضٍ: خاطر خواہ، حسب خواہش، تسلی بخش، قابل اطمینان، اطمینان دہ، خوشگوار، خوش کن، دلجوئی و تسکیں دہ، کافی۔

رطّ: ۱۔ اَرَطَّ اِرْطَاطًا: بے وقوف ہونا، احمق ہونا۔ اِسْتَرَطَّ ہُ: کو بے وقوف جاننا، سمجھنا۔ الرَطِیط جمع رِطَاط: احمق، حماقت۔ الرَطَائِط: بے وقوف لوگ۔

۲۔ اَرَطَّ اِرْطَاطًا: چیخنا، چلانا، شور مچانا۔ الرَطِیط جمع رِطاط: شوروغل، چیخ پکار۔

۳۔ اَرَطَّ اِرطاطًا فی مقعدہ: اپنی نشست پر جم کر بیٹھنا۔

رطأ: رَطَأَ ـ رَطْأً القومَ: قوم کو ناپسندیدہ امر میں الجھا دینا۔ اِسْتَرْطَأَ الرجلُ: احمق ہونا۔ ـــ ہ: کو احمق جاننا۔ الرَطَا: حماقت۔ الرَطی جمع رِطَاء مؤنث رَطِیئَۃ و رَطْآء: احمق۔

رطب: ۱۔ رَطَبَ ـ رَطَابَۃً البُسْرُ: کچی کھجوروں کا پکنا۔ ـــ ہ: کو تازہ پکی کھجوریں کھلانا۔ رَطُبَ ـ رَطَابَۃً البُسْرُ: کچی کھجوروں کا تازہ پکی کھجوریں بننا۔ رَطَّبَ ہُ: کو تازہ پکی کھجوریں کھلانا۔ ـ البُسْرُ: کچی کھجوروں کا تازہ پکی کھجوریں بننا۔ اَرْطَبَ البسرُ: کچی کھجوروں کا تازہ پکی کھجوریں بننا۔ ـــ النخلُ: کھجوروں کے پکنے کا موسم آنا۔ ـــ القومُ: قوم کے کھجوروں کے درختوں کا پکی کھجوریں لانا۔ الرُطَب واحد رُطَبَۃ جمع رِطَاب و اَرْطَاب: پختہ تازہ کھجور، کھجوریں۔

۲۔ رَطَبَ ـ رَطْبًا و رُطُوبًا الدابَّۃَ: جانور کو تازہ سبز گھاس چرانا۔ رَطِبَ ـ و رَطُبَ ـ رُطُوبَۃً و رَطَابَۃً: تر ہونا، نم ناک ہونا، نرم و نازک ہونا۔ رَطَّبَ الثوبَ و نحوَہٗ: کپڑے وغیرہ کو تر کرنا۔ اَرْطَبَ الثوبَ و نحوَہ: کپڑے وغیرہ کو تر کرنا۔ ـــ تِ الارضُ: زمین کا بہت سبز گھاس اور تازہ سبزی والا ہونا۔ تَرَطَّبَ: تر ہونا، بھیگنا، نم ناک ہونا۔ کہاجاتا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے: تَرَطَّبَ لِسانی بذِکرِكَ: میں تمہارے ذکر میں رطب اللسان ہوں۔ رُطَب و الرُّطَب: سبز گھاس کا قطعہ۔ الرَّطْب و الرَّطِيب: تر، نمناک، ملائم و نازک ٹہنی یا پر وغیرہ۔ کہا جاتا ہے: غلامٌ رَطْبٌ: عورتوں کی سی نزاکت رکھنے والا لڑکا۔ جَارِيَةٌ رَطْبَةٌ: نرم و لچکدار لڑکی۔ عَيشٌ رَطِيبٌ: خوشحالی کی زندگی۔ الرَّطْبَة (ن): بنفشی مائل رنگ کے پھولوں والا گھاس جیسا پودا۔ المِرْطَاب: ہوا کی رطوبت کا درجہ معلوم کرنے کا آلہ جسے مِيزَانُ الرطوبة بھی کہا جاتا ہے۔ المَرَطِّبَات: ہلکے مشروبات (جو حلق کو تر کریں)۔

۳۔ المَرْطَبَان: (دوائیں اور گاڑھے رس رکھنے کا) مرتبان۔

۞ رَطِبَ ـَ و رَطُبَ ـُ رُطُوبَةً و رَطَابَةً: گیلا ہونا، تر ہونا، نم ہونا، مرطوب ہونا، سیلا یا نمناک ہونا۔ رَطَّبَ ہ: کو گیلا کرنا، تر کرنا، نم کرنا، مرطوب کرنا۔ — ٹھنڈا ہونا، تازہ دم ہونا۔ — القلبَ: دل کو تسکین دینا، شاد کرنا، نرم کرنا، ملائم کرنا، تسلی دینا، تسکین دینا۔ —— شاداب ہو جانا، رسیلا ہو جانا، پر لطف ہو جانا، میٹھا ہو جانا، نرم ہو جانا، پک جانا (کھجوروں کا)۔ أَرْطَبَ ہ: کو گیلا کرنا، تر کرنا، نم کرنا۔ —: کھجوروں کا رسیلا ہو جانا، میٹھا ہو جانا، پک جانا۔ تَرَطَّبَ: گیلا ہونا، تر ہونا، نرم ہونا، ٹھنڈا ہونا، تازہ دم ہونا، شاد ہونا، تسکین پانا، نرم ہونا، تسلی پانا۔ رَطْبٌ: تر، گیلا، نم، نمناک، تازہ، ٹھنڈا، رسیلا، رس دار، رس بھرا، شیرے دار، پر لطف، نرم و نازک (پودا)۔ رُطَبٌ: اسم جنس واحد رطبة جمع أَرْطَاب و رِطَاب: تازہ، پکی کھجوریں۔ رَطِيبٌ جمع رِطَاب: تر، نم، گیلا، نمناک، تازہ، ٹھنڈا، رس دار، رس بھرا، رسیلا، شیرے دار، نرم و نازک (پودا)۔ رُطُوبَة: تری، نمی، سیل، رطوبت، گیلا پن، ہوا میں رطوبت، نمی۔ رَاطِب: تر، نم، گیلا، مرطوب، نمناک۔ مُرَطِّبَات: کسی عام جگہ یا تقریب میں فراہم کی جانے والی خوراک اور مشروبات کی ہلکی مقداریں۔

رطس: رَطَسَ ـِ رَطْسًا ہ: کو تھپڑ مارنا۔ اِرْطَسَّ ت الحجارةُ عليه: پر پتھروں کا تہہ بہ تہہ ہونا۔

رطل: ۱۔ رَطَلَ ـُ رَطْلًا الشيءَ: کو ہاتھ میں لے کر اس کے وزن کا اندازہ کرنا۔ رَطَّلَ الشيءَ: کا رطل پیمانہ سے وزن کرنا۔ رَاطَلَ: رطلوں سے بیچنا۔ الرَّطْل و الرِّطْل جمع أَرْطَال: ایک وزن بارہ اوقیہ یا ۲۵۶۴ گرام کا۔ (ارامی لفظ)۔

۲۔ رَطَلَ ـُ رَطْلًا الرجلُ: دوڑنا۔ الرَّطْل و الرِّطْل: سبک و تیز رفتار گھوڑا۔ الرِّطْلَة: سبک رفتار گھوڑی۔ رِطْل کا مونث۔

۳۔ رَطَّلَ الشعرَ: بالوں میں تیل لگا کر ان کو نرم کرنا، ان میں کنگھی کرنا اور کھلا چھوڑ دینا۔ — و أَرْطَلَ الرجلُ: ڈھیلے کانوں والا ہونا۔ الرَّطْل و الرِّطْل من الرجال: کمزور لاغر آدمی۔ المُرْطِل من الرجال: نرم، لمبا آدمی۔

۴۔ الرَّطْل: قریب البلوغ نرم و نازک اور پتلا دبلا لڑکا۔ — من الرجال: بیوقوف آدمی، بوڑھا اور کمزور آدمی۔ الرِّطْل: قریب البلوغ نرم و نازک اور دبلا پتلا لڑکا۔ الرُّطَيْلاء (ح): (الرُّتَيْلاء): کیڑے مکوڑے جیسے مکڑی مکھی وغیرہ۔

۞ رَطْل جمع أَرْطَال: وزن کا پیمانہ (مصر میں ۴۴۹،۲۸ گرام) شام میں ۲۰۲،۳ کلو گرام، بیروت اور الپو میں ۵۶۶،۲ کلو گرام کا)۔

رطم: ۱۔ رَطَمَ ـُ رَطْمًا ہ: کو کیچڑ میں ڈالنا یا ایسی مشکل میں پھنسانا جس سے خلاصی دشوار ہو۔ —— و أَرْطَمَ في قعودِهِ: جم کر بیٹھنا۔ اِرْتَطَمَ: کیچڑ میں گر جانا یا ایسے معاملہ میں پھنس جانا جس میں معلوم نہ ہو کہ اس سے کیسے نبٹے۔ — في الامر: کسی امر میں الجھ جانا۔ — عليه الامرُ: پر کوئی امر مشتبہ ہونا، گڑبڑ ہونا۔ — الشيءُ: کا ڈھیر لگنا، انبار لگنا۔ الرُّطْمَة: ایسا معاملہ جس سے نبٹنے کی ترکیب سجھائی نہ دے۔ امرأة مَرْطُومَةٌ: وہ عورت جس پر گناہ کی تہمت ہو۔

۲۔ رُطِمَ البعيرُ: اونٹ کو قبض ہو جانا۔ تَرَطَّمَ السلحَ: پاخانہ روکنا۔ الرُّطَام: قبض۔

۳۔ اِرْطَمَّ الرجلُ: خاموش رہنا۔

۞ رَطَمَ ـُ رَطْمًا ہ في: کو (کسی ناخوشگوار چیز) میں پھنسانا، الجھانا، مبتلا کرنا، گھسیٹنا۔ اِرْتَطَمَ في: میں گرنا، گر پڑنا، لڑھک جانا، الجھ جانا، پھنس جانا۔ —— ساتھ لگے رہنا، چسپاں ہونا، (جہاز کا) ساحل پر چڑھ جانا۔ — ب: سے ٹکرا جانا۔ مَرْطَم: (سمندر میں) بند، پشتہ، مصنوعی بندرگاہ، حفاظتی بند۔

رطن: رَطَنَ ـُ رَطَانَةً و رِطَانَةً له و رَاطَنَهُ مُرَاطَنَةً: سے عجمی زبان میں بات کرنا۔ تَرَاطَنَ القومُ و تَرَاطَنُوا فيما بينهم: آپس میں عجمی زبان میں گفتگو کرنا۔ الرُّطَيْنَى: غیر مفہوم کلام۔ کہا جاتا ہے: ما رُطَيْنَاكَ هذه: یہ تمہاری کیسی گفتگو ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔

۞ رَطَنَ ـُ رَطَانَةً و رِطَانَةً: ایسی زبان بولنا جو سمجھ میں نہ آئے، لایعنی گفتگو کرنا، بے معنی باتیں کرنا، بڑ ہانکنا۔ رَطَانَة و رِطَانَة: لایعنی گفتگو، غیر ملکی بولی، کسی خاص طبقہ کی زبان یا محاورہ۔ رُطَان: لایعنی گفتگو، غیر ملکی بولی، کسی خاص طبقہ کی زبان یا محاورہ۔

رع: ۱۔ رَعَّ ـِ رَعًّا تِ الریحُ: ہوا کا ٹھہرنا۔ الرَّعَاع: رذیل لوگ۔ الرَّعَاعَة: بے عقل اور بغیر دل والا۔ (ح): شترمرغ۔

۲۔ رَعْرَعَ الماءُ: پانی کا سطح زمین پر لہریں مارنا۔ —— الفرسَ: گھوڑے پر اسے سدھانے کے لئے سوار ہونا۔ تَرَعْرَعَ الماءُ او السرابُ: پانی یا سراب کا جنبش و حرکت میں ہونا۔ ——ت السِّنُّ: دانت کا ہلنا۔ الرَّعْوَاع: بزدل۔

۳۔ رَعْرَعَهُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی چیز کو اگانا۔ تَرَعْرَعَ الصبيُّ: بچہ کا بڑھنا، جوان ہونا۔ الرُّعْرُع و الرَّعْرَع جمع رَعَارِع و رَعَارِيع: خوبصورت قد و جوانی والا۔ الرَّعْرَاع جمع رَعَارِع و رَعَارِيع: خوبصورت قد و جوانی والا، لمبا نرکل۔

۞ رَعَاع: بھیڑ، اژدحام، ہجوم، انبوہ، رذیلوں کی ٹولی، جم غفیر، بے ترتیب مجمع، عوام الناس، تیل تمبولی، نیچ ذات کے لوگ، گنوار، ردی یا نکمی چیز، فسادیے، دنگا کرنے والے، غنڈے، بازاری لوگ۔ رَعْرَعَ: جوانی کا آغاز ہونا۔ تَرَعْرَعَ: بڑھنا، پھیلنا، پھولنا، پنپنا، فروغ پانا، ترقی کرنا۔ رَعْرَع و رُعْرُع جمع رَعَارِع: عنفوان شباب میں۔

رعب: ۱۔ رَعَبَ ـَ رُعْبًا و رُعُبًا: ڈرنا۔ — الرجلَ: کو ڈرانا۔ رَعَّبَ تَرْعِيبًا و تَرْعَابًا الرجلَ: کو ڈرانا۔ اِرْتَعَبَ: ڈرنا۔ الرُّعْب و الرُّعُب: خوف، ڈر۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَ ذلكَ رُعْبًا لا رُغْبًا: اس نے وہ کام خوف سے کیا، رغبت سے نہیں کیا۔ سيلٌ راعِبٌ: خوف زدہ کرنے والا زبردست سیلاب۔ الرَّعِيب: خوف زدہ، ڈرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ رَعِيبُ العين و مَرْعُوبُ العين: وہ بزدل آدمی جو ہر چیز کو دیکھتے ہی ڈر جائے۔ الرَّعَّابَة: لوگوں کو بہت ڈرانے والا۔ الرُّعْبُوب جمع رَعَابِيب: بزدل۔ المَرْعَبَة: دہشت ناک طور پر چونک اٹھنا۔ التِّرْعَابَة: بہت ڈرنے والا۔ آپ کہتے ہیں: هو في السلم تِلْعابَة و في الحروب تِرعابة: وہ زمانہ امن میں بہت کھیلنے والا ہے اور جنگ میں بہت ڈرنے والا ہے۔

۲۔ رَعَبَ ـَ رَعْبًا الإناءَ او الحوضَ: برتن یا حوض کو بھرنا۔ رَعَّبَ تَرْعِيبًا و تَرْعَابًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

۳۔ رَعَبَ ـَ رَعْبًا السنامَ و نحوَهُ: کوہان وغیرہ کے لمبے لمبے ٹکڑے کاٹنا۔ رَعَّبَ تَرْعِيبًا و تَرْعَابًا السنامَ: کوہان کے لمبے لمبے ٹکڑے کاٹنا۔ التَّرْعِيبَة جمع

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تَرَاعِیب: کوہاں کا ایک ٹکڑا۔
۴۔رَعَّبَ تَرْعِیبًا و تَرْعَابًا فلانًا: کے تیر میں پیکان لگانے کی جگہ کو درست کرنا۔الرُّعْب و الرُّعُب جمع رِعَبَة: تیر میں پیکاں لگانے کی جگہ۔
۵۔الرَّعْب: جادو کا منتر۔الرَّعَّاب: جادوگر۔
الرَّعِیب و المُرْعَبّ: چربی دار، موٹا۔الرُّعْبُوب والرُّعْبُوبَة والرِّعْبِیب من الجواری: نرم و نازک اندام لڑکی۔
۶۔رَعْبَلَ اللحمَ: گوشت کے پارچے بنانا تاکہ آنچ کے اثر سے اچھی طرح پک جائے ـــــ الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔تَرَعْبَلَ اللحمُ: گوشت کے پارچے بنا تاکہ آنچ سے پک جائیں ـــــ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا، بوسیدہ ہونا۔الرَّعْبَل من النساء: پھٹے پرانے کپڑے پہننے والی عورت۔الرِّعْبَلَة جمع رَعَابِل: پرانا کپڑا۔الرُّعْبُولَة جمع رَعَابِیل: پرانا کپڑا۔کہا جاتا ہے:ثوبٌ رَعَابِیل: پھٹا پرانا کپڑا، پھٹا ہوا چیتھڑا، گوشت کا پارچہ۔
۷۔رَعْبَلَ الرجلُ: بیوقوف عورت سے شادی کرنا۔
الرَّعْبَل من النساء: بے وقوف عورت۔
۸۔جملٌ رَعْبَل: موٹا اونٹ۔الرَّعْبَلَة والرَّعْبِلیل من الریاح: ایک رخ سے نہ چلنے والی ہوا۔
ⓒ رَعَبَ ـ رُعْبًا: گھبرانا، دہشت زدہ ہونا، ہول کھانا، سخت ڈرنا، خوف زدہ ہونا، خائف ہونا۔رَعَّبَ و اَرْعَبَ ہ: کو دہشت زدہ کرنا، ڈرانا، خائف کرنا، ہولا دینا، میں دہشت پیدا کرنا۔اِرْتَعَبَ: ڈر جانا، گھبرا جانا، دہشت زدہ ہو جانا، خوف زدہ ہو جانا۔رُعْب: سخت خوف، اندیشہ، خوف، کھٹکا، ہول دہشت۔
اِرْعَاب: ڈرانا، دھمکانا۔رَاعِب: دہشناک، خوفناک، ہولناک۔مَرْعُوب: دہشت زدہ، خوف زدہ، ڈرا ہوا، ہول کھایا ہوا۔مُرْعِب: خوفناک، ڈراؤنا، ہولناک، دہشت ناک، بہت بڑا، ناگوار۔
رعث: ا رَعَثَ ـ رَعْثًا و رَعِثَ ـ رَعَثًا ت العنزُ: بکری کا کنارہ گوش سے سفید ہونا۔تَرَعَّثَ و اِرْتَعَثَت المرأۃُ: عورت کا بالیاں پہننا۔الرَّعْث و الرَّعَث: رنگین پشم جو ہودج کے اوپر لٹکاتے ہیں، مختلف قسم کے پھندنے جو پالکی کے اوپر لٹکاتے ہیں۔رَعْثُ الرُّمَّان: شگوفہ انار کی کلی۔الرَّعْثَة و الرَّعَثَة جمع رِعَاث و جج رُعُث: کان کی بالی، مرغ کی کلغی۔الرَّعْثاء: بکری جس کے دونوں کانوں کا کٹا ہوا حصہ لٹکتا ہو۔
رعج: ا رَعَجَ ـ رَعْجًا و رَعَجَانًا: کوغنی کرنا۔رَعَجَ

ـ رَعَجًا المالُ او العددُ: مال مویشی اور گنتی کا بہت ہونا ـــــ الوادی: وادی کا بھر جانا۔اَرْعَجَ ہُ: کوغنی کرنا ـــــ الرجلُ: بہت مال اور مویشیوں والا ہونا۔
اِرْتَعَجَ المالُ: مال (مویشی) بکثرت ہونا ـــــ الوادی: وادی کا بھر جانا۔الرَّعْج: بہت مویشی۔
۲۔رَعَجَ ـ رَعْجًا و رَعَجَانًا ہُ: کو بے کل و بے چین کرنا ـــــ البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا۔اَرْعَجَ ہُ: کو بے کل و بے چین کرنا۔اِرْتَعَجَ الرجلُ: کانپنا۔کہا جاتا ہے:خرجوا ولھم ارتعاج: وہ ٹھاٹھیں مارتے نکلے ـــــ البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا۔
رعد: ا رَعَدَ ـ رَعْدًا و رُعُودًا السحابُ: بادل کا گرجنا، کڑکنا۔کہا جاتا ہے:رَعَدَلی فلانٌ و بَرَقَ: فلاں شخص نے مجھے دھمکیاں دیں۔رعدت المرأۃ و بَرَقَت: عورت کا بناؤ سنگھار کر کے سامنے آنا۔اَرْعَدَ الرجلُ: کو گرج سے تکلیف ہونا، گرج سننا ـــــ زیداً: زید کو ڈرانا دھمکانا ـــــ ہُ الخوفُ: کو خوف کا لرزا دینا، کپکپا دینا۔اُرْعِدَ: پر کپکپی طاری ہونا، لرزہ محسوس کرنا، کپکپاہٹ میں مبتلا ہونا۔تَرَعَّدَ: حرکت کرنا، کانپنا۔اِرْتَعَدَ: مضطرب ہونا، کانپنا۔الرَّعْد (مص): بادل کی گرج۔کہا جاتا ہے:جاء بذات الرعد والصلیل: وہ لڑائی لایا۔الرَّعْدَة و الرِّعْدَة: کپکپی جو خوف وغیرہ سے لاحق ہو لرزہ۔الرَّعَّاد: بہت گرجنے والا بادل، بہت بولنے والا (آدمی)۔
(ح): ایک قسم کی مچھلی جسے چھونے سے ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔اسے سمکۃُ الرعد بھی کہا جاتا ہے۔
الرَّاعِدَة جمع رَوَاعِد: گرجنے والا بادل۔صَلَفٌ تحت الراعدہ: وہ شخص جو بکواس ہو، کام کی بات نہ کرتا ہو۔ذات الرَّوَاعِد: مصیبت۔الرَّعَّادَة: بہت بولنے والا۔
۲۔رَعْدَدَ: اصرار کے ساتھ مانگنا۔تَرَعْدَدَ: پر کپکپی طاری ہونا۔الرِّعْدِید والرِّعْدِیدَة جمع رَعَادِید: بزدل بہت کانپنے والا۔نباتٌ رِعْدِیدٌ: نرم و نازک پودا۔
ⓒ رَعَدَ ـ رَعْدًا: گرجنا، کڑکنا۔ل ب: کو سے ڈرانا، خوف دلانا، ہیبت زدہ کرنا۔اَرْعَدَہ: کو لرزانا، کپکپا دینا۔اُرْعِدَ من: سے لرزنا، کانپنا، تھرانا، کوفت ہونا، کپکپانا، تھرتھرانا۔اِرْتَعَدَ: کانپنا، لرزنا، تھرانا، پر رعشہ طاری ہونا۔رَعْد جمع رُعُود: گرج، کڑک۔
رَعْدَة و رِعْدَة: تھرتھراہٹ، لرزہ، کپکپی، رعشہ۔
رَعَّاد: (اسم جنس واحد رعدہ) برقی چمک۔رِعْدِید جمع رَعَادِید: بزدل، ڈرپوک، بے ہمت۔
رعس: ا رَعَسَ ـ رَعْسًا: کانپنا، لرزنا، تھکاوٹ غیرہ سے کمزور چال چلنا ـــــ رَعْسًا و رَعَسَانًا رأسَہُ: سر کو بڑھاپے کے سبب ہلانا۔اَرْعَسَ ہُ: کو کپکپا دینا، لرزا دینا۔تَرَعَّسَ و اِرْتَعَسَ: کانپنا، لرزنا۔الرَّعِیس: کانپنے والا، چلنے میں، ڈگمگانے والا۔الرَّعُوس: خوشی یا نیند کی وجہ سے سر ہلانا والا۔ناقۃٌ رَاعِسَةٌ: چست اونٹنی۔
۲۔المِرْعَس: خسیس آدمی۔
رعش: ا رَعِشَ ـ رَعَشًا و اِرْتَعَشَ: کانپنا، کو لرزہ پڑنا، لرزہ براندام ہونا۔صفت رَعِش و رعیش۔
رَعَّشَ و اَرْعَشَ ہُ: کو کپکپا دینا، لرزہ براندام کرنا، لرزانا، پر لرزہ ڈالنا۔الرَّعِش و الرِّعْشِیش: بزدل، لڑائی یا بھلائی کے کاموں کی طرف جانے میں جلدی کرنے والا۔الرِّعْشَة: جلدی، عجلت۔الرُّعَاش: مرض کے باعث انسان کو لاحق ہونے والا رعشہ۔ناقۃٌ رَعُوش: بڑھاپے کے سبب سر ہلنے والی اونٹنی۔
المُرْعَش و المَرْعَش (ح): سفید کبوتر، جو ہوا میں اونچی اڑان کرتا ہے۔الرَّعْشاء من النوق: تیز رفتاری کی وجہ سے جھوم کر چلنے والی اونٹنی ـــــ من النعام: تیز رفتار شتر مرغ۔
۲۔رَعَّشَ و اَرْعَشَ ہُ: کو عاجز کرنا۔
۳۔الرَّعْشَن: کانپنے والا، بزدل، جلد باز۔
ⓒ رَعَشَ ـ رَعْشًا و رَعِشَ ـ رَعَشًا: کانپنا، ہلنا، لرزنا۔اَرْعَشَ ہُ: کو کپکپا دینا، لرزہ براندم کرنا، لرزانا۔
اِرْتَعَشَ: ۔کانپنا، ہلنا، لرزنا، کپکپانا، لرزہ براندام ہونا، پر لرزہ پڑنا۔رَعْشَة: تھرتھراہٹ، کپکپی، رعشہ (زمین کا) ہلنا، زلزلہ۔رَعْشَةُ الحُمَّی: بخار کی کپکی، اِرْتعاش: تھرتھراہٹ، کپکپی، کپکپاہٹ، زلزلہ۔
رعص: رَعَصَ ـ رَعْصًا و اَرْعَصَ الشیءَ: کو حرکت دینا، ہلانا، کھینچنا ـــــ علیہ جلدُہُ: کی کھال کا پھڑکنا۔
تَرَعَّصَ و اِرْتَعَصَ: پیچ کھانا، ہلنا ـــــ علیہ جلدُہُ: کی کھال پھڑکنا ـــــ الجَدْیُ: بکری کے بچہ کا خوشی سے پھدکنا، اچھلنا۔
ⓒ تَرَعَّصَ و اِرْتَعَصَ: درد سے پہلو بدلنا، اینٹھنا، کو اینٹھن ہونا، تشنج ہونا، درد سے لوٹ پوٹ ہونا، چکر کھانا، کنڈل بنانا، بل کھاتے ہوئے چلنا۔
رعظ: ا رَعَظَ ـ رَعْظًا السھمَ: تیر میں پیکان لگانے کی جگہ بنانا، پیکان کی جگہ توڑنا۔رَعَّظَ الوتدَ: کیل کو اکھاڑنے کے لئے ہلانا۔اَرْعَظَ السھمَ: تیر میں پیکان لگانے کی جگہ بنانا، پیکان کی جگہ توڑنا۔
الرُّعْظ جمع اَرْعَاظ: تیر میں پیکان لگانے کی جگہ۔کہا جاتا ہے:کسر علیہ اَرْعَاظَ النبال: ؎

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اس پر بہت غضبناک ہوا۔

۲۔رَعَّظَ ہٗ عن کذا: کومیں ست بنانا، سے میں جلدی کرانا۔اَرْعَظَ فلاناً: کوست بنانا، سے جلدی کرانا۔

رعف: ا۔رَعَفَ ۔رَعْفًا الفرسُ الخیلَ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں سے آگے نکل جانا۔۔۔ رَعْفًا و رُعَافًا الرجلُ: کی نکسیر پھوٹنا۔رَعِفَ ۔رَعَفًا الدمُ: ناک سے نکسیر کا خون بہہ پڑنا،نکسیر پھوٹنا۔۔۔ رَعْفًا و رُعَافًا الرجلُ: کی نکسیر پھوٹنا۔اَرْعَفَ ہٗ: سے جلدی کرانا۔۔ القِرْبَۃَ: مشک کو چھلکنے تک بھر دینا۔۔ القلمَ: قلم میں سیاہی زیادہ لگالینا۔اِرْتَعَفَ: آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔اِسْتَرْعَفَ: آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔۔ ت الحَصَی رِجْلَہٗ: کنکریوں کا کسی کے پاؤں کو خون آلودہ کرنا۔الرَّعْف (مص): نیزہ مارنے کی پھرتی۔الرَّاعِف (فا) جمع رَوَاعِف: دوسرے گھوڑوں سے آگے نکل جانے والا گھوڑا، ناک کا کنارہ، پہاڑ کی چوٹی۔الرُّعَاف: نکسیر۔الرَّعُوف و الرَّاعُوف و الراعُوفَۃ و الأُرْعُوفَۃ من البئر: کنویں کا پتھر جس پر کھڑے ہو کر پانی نکالیں۔الرَّعَّاف: بہت آگے بڑھنے والا، وہ شخص جس کو نکسیر پھوٹنے کی بڑی شکایت ہو، جس کی نکسیر اکثر پھوٹتی رہتی ہو۔الرَّوَاعِف: نیزے۔المَرَاعِف: ناک اور اس کے آس پاس کی جگہ۔کہا جاتا ہے:فعلتہ علی الرغم من مَرَاعِفِہِ: میں نے اس کو اس کی مرضی کے خلاف کیا۔یہی معنی علی رغم انفہ کے بھی ہیں:یعنی اس کی مرضی کے خلاف۔المُسْتَرْعِف من الخیل: آگے رہنے والا گھوڑا۔

۲۔رَعَفَ ۔رَعْفًا بہ البابُ: اچانک اندر آجانا۔

۳۔الرُّعَاف: بہت بارش۔الرُّعُوف: ہلکی بارشیں۔الرُّعَافِیّ: بہت فیاض بارش۔

○ رَعَفَ ۔و رَعِفَ ۔: رَعَفَ انْفُہٗ: کی نکسیر پھوٹنا۔رُعَاف و رَعِیف: نکسیر۔رَاعِف: ناک کی نوک۔

رعق: رَعَقَ ۔رُعاقاً و رَعِیقًا بطنُ الدابّۃِ: دوڑتے وقت جانور کے پیٹ سے آواز نکلنا۔

رعل: ا۔رَعَلَ ۔رَعْلاً الشیءَ: کا شگاف فراخ کرنا۔۔ فلاناً: کو زور سے تیر مارنا۔اَرْعَلَ ہٗ: کو زور سے تیر مارنا۔

۲۔رَعِلَ ۔رَعَلاً: احمق ہونا۔الأَرْعَل مونث رَعْلاء جمع رُعْل: احمق۔الرَّعَالۃ: حماقت۔

۳۔رَعِلَ ۔رَعَلاً النباتُ: پودے کی شاخوں کا لمبا ہو کر لٹکنا۔صفت اَرْعَل۔ رَعَّلَ الکرمُ: انگور کی بیل کا پھوٹنا۔رَعْلُ الرجُلِ: کپڑے۔الرُّعْلَۃ جمع رُعْل: انگور کی کونپل۔الرَّعْلَۃ جمع رِعَال و اَرْعَال و اَرَاعِیل: اونٹنی یا بکری کا کان جسے چھیدا گیا ہو۔الأَرْعَل: لمبی اور لٹکتی ہوئی شاخوں والا پودا۔نبتٌ اَرْعَل: لمبا پودا جس کی شاخیں لٹکتی ہوں۔ضربٌ اَرْعَل: سخت چوٹ جس سے گوشت کٹ کر لٹکنے لگے۔

۴۔اِسْتَرْعَلَ الرجلُ: حملہ میں سب سے آگے چلنا۔۔ تِ الغنمُ: بکریوں کا آگے پیچھے چلنا۔الرَّعْل: پہاڑ کی نکلی ہوئی چوٹی۔الرُّعَال: ناک سے بہنے والا مادہ، ریزش۔الرَّعْلَۃ جمع رِعَال و اَرْعَال و اَرَاعِیل: گھوڑوں یا گایوں کا گلہ جو آگے ہو۔(کہا جاتا ہے اقبلت الخیلُ رِعالاً و اَرَاعِیلَ: گھوڑے آگے آگے آئے)۔(ح): شترمرغ۔اراعیلُ الریاح او السحاب: ہواؤں کے پہلے جھونکے یا ابتدائی بادل۔الرَّعِیل جمع رِعَال: آگے رہنے والا گھوڑوں کا گلہ، آدمیوں کا گروہ یا پرندوں کا ٹولہ،لشکر کی وہ صف جو دوسری صف کے پیچھے رکھی جاتی ہے تاکہ ضرورت کے وقت اس کی حمایت کرے۔المَرَعَّل: عمدہ مال۔المُسْتَرْعِل: گلہ سے نکلا ہوا جانور۔

۵۔الرِّعْل (ح): شہد کی نرمکھی۔الرُّعْلَۃ: پھولوں کا گجرا، ہار۔الرَّعْلَۃ جمع رِعَال و اَرْعَال و اَرَاعِیل: عیال۔

○ رُعْلَۃ: پھولوں کا ہار۔رَعِیل جمع رِعَال: بکتر بند، موٹرائے ہوئے یا رسالہ کے فوجیوں کا دستہ۔

رعم: ا۔رَعَمَ ۔رَعْماً الشیءَ: کی نگہبانی کرنا۔۔ الشمسَ: سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرنا۔الرُّعَام: نظر کی تیزی۔

۲۔رَعَمَ ۔ رُعَاماً و رَعُمَ ۔ رَعَامَۃً و اَرْعَمَ ت الشاۃُ: بکری کا بہت دبلا ہونا جس کی وجہ سے اس کے ناک کی ریزش بہنا صفت رَعُوم۔ رَعَّمَ الشاۃَ: بکری کی ناک کی ریزش صاف کرنا۔الرُّعَام جمع اَرْعِمَۃ: رینٹ، ناک، رطوبت۔

۳۔الرِّعْم: چربی۔امّ رِعْم (ح): بجو۔الرَّعُوم: نفس۔الرُّعَامۃ و الرُّعَامَی (ن): ایک قسم کا درخت۔

○ رُعَام: گھوڑوں کی ایک بیماری جس میں جبڑوں کے نیچے ورم آجاتا ہے اور ناک بہنے لگتی ہے یہ بیماری انسان کو بھی لگ جاتی ہے۔

○ رَعَمْسِیس: رمسیس (مصری بادشاہوں کا نام)۔

رعن: ا۔رَعَنَ ۔رَعْنًا و رَعِنَ ۔رَعَنًا و رَعُنَ ۔ رُعُونَۃً: بیوقوف ہونا، کلام میں [illegible] ہونا۔صفت اَرْعَن۔

۲۔رَعَنَ ۔رَعْنًا: ڈھیلا ہونا۔۔ تہُ الشمسُ: دھوپ سے کسی کے دماغ کا متاثر اور ڈھیلا ہو کر بیہوش ہو جانا۔رَعِنَ ۔رَعَناً و رَعُنَ ۔رُعُونَۃً: ڈھیلا ہونا۔

۳۔الرَّعْن جمع رِعَان و رُعُون: پہاڑ کی چوٹی، لمبا پہاڑ۔الأَرْعَن: چوٹی والا پہاڑ، لمبی ناک والا۔الرَّعُون: رات کی تاریکی، سخت اور بہت حرکت کرنے والا۔

○ رَعُنَ ۔رُعُونَۃً: بہکا ہوا ہونا، بے عقل ہونا، سنکی ہونا، ہرزہ سرا ہونا۔رَعَنَ ۔رَعْنًا تہُ الشمسُ: کسی پر لو کا اثر ہو جانا، گرمی کا اثر ہو جانا۔رَعْن: لو کا اثر، گرمی کا اثر، جمع رِعَان: پہاڑ کی چوٹی۔اَرْعَن: ہرزہ سرا، سنکی، بے عقل، غیر سنجیدہ، بے ادب، جلد باز، عاقبت نااندیش، بے پروا، غافل، کند ذہن، غبی، بیوقوف، احمق، سادہ لوح، ڈانوا ڈول، متلون، ناپائیدار۔رُعُونَۃ جمع رعونات: چھچھورا پن، بیہودگی، بے ادبی، غیر سنجیدگی، غفلت، بے پروائی، خودغرضی، بے مروّتی۔

رعا: رَعَا ۔رَعْوًا و رِعْوَۃً و رَعْوَۃً و رُعْوَۃً: اپنی جہالت و غلطی سے باز آنا۔اِرْعَوَی اِرْعِوَاءً عن الجہل: جہالت سے رکنا، باز رہنا (صفت مُرْعَوٍ): رجوع کرنا۔الرَّعْوَی و الرُّعْوَی و الرُّعْیَا: جہالت سے رجوع۔

○ رَعَا ۔رَعْوًا و رَعْوَۃَ و رُعْوَۃً و رَعْوَی و رُعْوَی و اِرْعَوَی من/عن: گناہ، غلطی وغیرہ سے باز رہنا۔۔ پچھتانا، پشیمان ہونا، ہاتھ ملنا، بڑی مشکل یا شکوک و شبہات کے بعد کوئی بات سمجھ جانا یا قبول کر لینا۔اِرْعَوَی عن غَیِّہِ: پچھتانا، پشیمان ہونا، راہ راست پر آجانا۔رَعْوَی و رُعْوَی: پشیمانی، پچھتاوا، ترمیم، تبدیلی، تفسیر، انابت، رجوع الی اللہ۔

رعی: ا۔رَعَی ۔رَعْیًا و رِعَایَۃً و مَرْعًی ت الماشیۃ الکلاءَ: مویشیوں کا گھاس چرنا۔۔ الماشیۃَ: مویشیوں کو گھاس چرنے کے لئے کھلا چھوڑ دینا۔رَاعَی ت الارضُ: زمین کا بہت چراگاہ والی ہونا۔۔ الحمارُ الحُمُرَ: گدھے کا اور گدھوں کے ساتھ چرنا۔اَرْعَی اِرْعاءً الماشیۃَ: مویشیوں کو چرانا۔۔ المکانَ: کسی جگہ کو چراگاہ بنانا۔۔ ت الارضُ: زمین کا بہت گھاس والی ہونا۔۔ اللّٰہ الماشیۃَ: اللہ تعالیٰ کا مویشیوں کے لئے چارہ اگانا۔تَرَعَّی و اِرْتَعَی ت الماشیۃُ: مویشیوں کا چرنا۔اِسْتَرْعَی اِسْتِرْعَاءً الماشیۃَ: مویشی چرانے کے لئے کہنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہُ ماشیۃً: سے اپنے مویشی چرانے کے لئے کہنا یا رکھوالی کے لئے کہنا۔ ضرب المثل ہے: من استرعی الذئبَ فقد ظَلَمَ: یہ ضرب المثل اس شخص پر بولی جاتی ہے جو خائن سے امانت داری کی امید رکھے۔ ضرب المثل کا معنی ہے: جس نے بھیڑیے سے رکھوالی کی خواہش کی اس نے ظلم کیا۔ الرِعْی جمع ارْعاء گھاس۔ رِعْیُ الابل (ن) ایک پودا۔ ــــ الحمام (ن): ایک پودے کا نام۔ الرِعْیَۃ: چرائی۔ المَرْعَی (مص) جمع مَرَاعٍ: گھاس۔ ــــ والمَرْعَاۃ: چراگاہ۔ رَاعِی الماشیۃ جمع رُعَاۃ و رُعیان رُعَاء و رِعَاء مونث رَاعِیَۃ جمع رَوَاعٍ: چرواہا، مویشیوں کا نگہبان۔ راعی البستان و راعیۃ الاتن: ہُڈیوں کی ایک قسم۔ راعیۃ الراس (ج): جوں۔ ــــ و رَوَاعِی الشیب بڑھاپے کا آغاز۔ الرَعِیَّۃ: چرنے والے مویشی۔ وہ مویشی جو چرائے جائیں۔ الرَعَاوِی و الرُعَاوِی لوگوں کے اردگرد چرنیوالے مویشی۔ الرَعَاوِیَّۃ ہر ایک کے چرائے جانے والے مویشی۔ الأرْعَاوِیَّۃ: بادشاہ کے چرائے جانے والے مویشی۔

۲۔ رَعَی ــ رَعْیًا و رِعایَۃً و مَرْعًی النجومَ: ستاروں کا مشاہدہ کرنا۔ رَاعَی مراعاۃً النجومَ ستاروں کا مشاہدہ کرنا۔ ــــ الامرَ معاملہ کے نتیجہ وانجام پر نظر رکھنا۔ ــــ الرجل کو اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے دیکھنا۔ راعِی الجوزاء و راعی النعائم (فلک): دو ستاروں کے نام۔

۳۔ رَعَی ــ رِعَایَۃً الامیرُ رَعِیَّتَہٗ اپنی رعایا پر سیاست رانی کرنا، مملکت کا انتظام سرانجام دینا۔ ــــ علیہ حرمتَہٗ: کی حرمت کا لحاظ کرنا۔ ــــ الامرَ: معاملہ کی حفاظت کرنا۔ رَعَّی تَرْعِیَۃً ہٗ کو رعاہ اللہ (اللہ اسے محفوظ رکھے) کہنا۔ رَاعَی مُرَاعَاۃً الامرَ کی حفاظت کرنا۔ اَرْعَی اِرْعَاءً علیہ: پر شفقت و مہربانی کرنا۔ اِسْتَرْعَی اِسْتِرْعَاءً ہُ الشیءَ کو کسی شئے کی حفاظت کے لئے کہنا۔ الرَعْی کہا جاتا ہے: رَعْیًا للّٰہ خدا تم کو بچائے رکھے۔ الرُعْیَا و الرُعْوَی و الرَعْیَاء و الرَعْوَی: حفاظت۔ الرَاعِی (فا) جمع رُعَاۃ و رُعیان و رُعَاء و رِعاء مونث رَاعِیَۃ جمع رَوَاعٍ: حاکم جو لوگوں کے معاملات کا انتظام کرے جیسے: اسقف (لاٹ پادری) بَطْرِیَرک سردار قبیلہ، اسقف) وغیرہ۔ المَرْعِیّ: چرایا ہوا، حفاظت کیا ہوا۔ الرَعِیَّۃ جمع رَعَایَا قوم، لوگ، عام لوگ جن پر کوئی حاکم ہو، کسی حاکم کے ماتحت رعایا۔ رَعِیَّۃ و رَعَایَا المَلِک بادشاہ کے ماتحت لوگ۔ رَعِیَّۃ الاسقف جو کسی لاٹ پادری کے ماتحت ہوں۔

۴۔ رَاعَیْتُ ہٗ سمعی: میں نے اس کی طرف کان لگایا۔ کہا جاتا ہے: ھو لا یراعی الی قول اَحَدٍ: وہ کسی کی بات پر دھیان نہیں دیتا۔ اَرْعَیْتُ ہٗ سمعی: میں نے اس کی بات کو توجہ سے سنا۔ اِسْتَرْعَی اِسْتِرْعَاءً ہُ السمعَ: کسی سے کان رکھنے کے لئے کہنا، سے توجہ کرنے کی خواہش کرنا۔ الرَاعِی جمع رُعَاۃ و رُعیان و رُعَاء و رِعَاء مونث رَاعِیَۃ جمع رَوَاعٍ بہت الفت کرنے والا۔

۵ رَعَی ــ رَعْیًا و رِعَایَۃً و مَرْعًی: چرنا۔ ــــ ہ (جانوروں کے ریوڑ) کی دیکھ بھال کرنا۔ ــــ رَعْیًا و رِعَـــایَۃً ہٗ: کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، کو بچائے رکھنا، کو زیر حمایت لینا۔ ــــ ہ/ ہٗ کی نگرانی یا نگہداشت کرنا۔ ــــ ہٗ کو بچائے رکھنا، کو کرنے کے لئے خاص طور پر فکرمند ہونا، کا بیڑہ اٹھانا، پر عمل کرنا، کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، کی طرف توجہ کرنا، پر کان دھرنا، کا خیال رکھنا، کا لحاظ کرنا، پر جما رہنا، کے حسب ہدایت یا حسب خواہش کام کرنا۔ ــــ عہداً او معاھدۃً عہد و پیمان یا معاہدہ کے مطابق عمل کرنا۔ ــــ ہٗ کی طرف توجہ کرنا، کی گنجائش رکھنا، کو مدنظر رکھنا، کو پیش نظر رکھنا، کی گنجائش کو مدنظر رکھنا۔ رَاعَی ہٗ کی نگرانی کرنا، کو قابو میں رکھنا، پر کڑی نظر رکھنا، کو برقرار رکھنا، کو محفوظ رکھنا، کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، کی طرف توجہ کرنا، پر کان دھرنا، کا خیال رکھنا، کا لحاظ کرنا، (ضوابط) کے مطابق عمل کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کی گنجائش رکھنا، کو حساب میں رکھنا، کا خیال رکھنا، کو مدنظر رکھنا، کو پیش نظر رکھنا، کی گنجائش کو مدنظر رکھنا۔ ــــ ہٗ کا پاس کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ ــــ ان: خیال رکھنا کہ مبادا دیکھنا کہیں۔ رَاعَی خاطِرَہٗ: کے جذبات اور خواہشات کا پاس کرنا، لحاظ کرنا، کی بات رکھ لینا۔ اَرْعَیْتُـــہٗ سَمْعِی میں نے اس کی بات پر کان لگائے، اسے سننے کی کوشش کی۔ اَرْعِنِی سَمْعَکَ: میری بات غور سے سنو۔ اَرْعَی ہ نظرَہٗ کو توجہ سے دیکھنا۔ اِرْتَعَی: مویشیوں کا چرنا، چراگاہ میں چرنا۔ اِسْتَرْعَی نظرَہٗ: کی آنکھوں کو کشش کرنا۔ ــــ الانتباہَ: کی توجہ مبذول کرانا۔ ــــ ہ پر عمل کرنا۔ رَعْی نگرانی، نگہداشت، حفاظت، سرپرستی۔ ــــــ ل: کی پابندی، پر عمل، پر استقامت۔ رَعْیًا لَکَ خدا تیرے ساتھ ہو۔ رَعِیَّۃ جمع رَعَـایَـا: ریوڑ، گلہ، چھوٹے کلیسائی حلقہ کی آبادی۔ رعیت، شہری، باشندہ۔ رَعْوِی جمع رَعَاوِی و رِعَانی: شعبانی، راعیانہ، گڈریوں سے متعلق دیہاتی۔ کنیسۃ رعویۃ چھوٹے کلیسائی حلقہ کا گرجا، کلیسا۔ رسالۃ رِعَانِیۃ: لاٹ پادری کا مراسلہ۔ رَعْوِیَۃ شہریت، قومیت۔ مَرْعًی جمع مَرَاعٍ چراگاہ، گھاس کا قطعہ، چرنے والی زمین۔ رِعَایَۃ: حفاظت، نگرانی، نگہداشت، توجہ، پاس، لحاظ، مروت، سرپرستی، اہتمام، کفالت، ضمانت، زیرحمایت علاقہ۔ تحتَ رِعایَۃِ: کے زیر اہتمام، کے زیر سرپرستی، کی ضمانت سے۔ مرکز رعایۃ الطفل بچوں کے لئے مرکز صحت۔ شرط معاملۃِ الدول الاکثرِ رعایۃ: سب سے زیادہ پسندیدہ قوم کی شق۔ مُراعاۃ: پاس، لحاظ، احترام، (کی) تعمیل، پابندی، (پر) عمل۔ مُرَاعاۃً لِ: کے پاس ادب سے، کے لحاظ کی وجہ سے، کے لئے، کے واسطے، کی خاطر، کی پابندی میں، پر عمل کرتے ہوئے۔ مراعاۃً لِخواطِرِھم: کے لحاظ کی وجہ سے، ان کے جذبات وخواہشات کے احترام کی وجہ سے۔ مع مراعاۃِ ھذا: اس کا خیال کرتے ہوئے، کے مدنظر کے پیش نظر، کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ راعٍ جمع رُعَاۃ و رُعیان و رُعَاء: گڈریا، چرواہا، راعی، نگہبان، محافظ، گلہ بان، سرپرست، مربی، پیش کار، ذمہ دار، کفیل، ضامن، غیر مقلد پادری۔ مَرْعِیّ: (پر) عمل کیا ہوا، کے حسب ہدایت یا حسب خواہش کیا ہوا۔

رغ: رَغْرَغَ: نیکی میں منہمک ہونا۔ ــــ ت الِابلُ: کے اونٹوں کا ہر روز جب چاہا پانی پینے آنا۔ ــــ الامرَ معاملہ کو پوشیدہ رکھنا، چھپانا۔

رغب ا۔ رَغِبَ ــ رَغْبًا و رُغْبًا و رَغْبَۃً فیہ: کو چاہنا، کی خواہش کرنا، سے محبت کرنا۔ ــــ عنہ: سے منہ پھیرنا، اعراض کرنا، روگردانی کرنا، کو چھوڑنا۔ ــــ بہ عن غیرہ: کو کسی پر فضیلت دینا، برتری دینا، ترجیح دینا۔ ــــ رَغْبًا و رَغَبًا و رُغْبًی و رُغْبَۃً و رَغْبَۃً و رَغَبُوتًا و رَغَبانًا و رَغْبَاءَ الیہ: کو عاجزی وخواری سے مانگنا، کی التجا کرنا۔ رَغَّبَ ہٗ کو اس کی مرغوب شئے دینا۔ ــــ ہ فی الشیء کو کسی کی رغبت دلانا، میں کی خواہش پیدا کرنا۔ اَرْغَبَ ہٗ فی الشیء کو کسی کی رغبت دلانا، میں کی خواہش پیدا کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَرْغَبَ اللّٰہُ قدرَکَ اللہ تعالیٰ تمہاری قدر وشان کو بلند کرے۔ تَرَاغَبَ الناسُ فی الخیر: لوگوں کا بھلائی وخیر کی خواہش کرنا، ان میں رغبت رکھنا۔ اِرْتَغَبَ فیہ: کی رغبت کرنا، خواہش کرنا، کو چاہنا۔ الرَغَب مرغوب۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الرَّغُوب: راغب۔ الرَّغِيبَة جمع رَغَائب: مرغوب شئے، بڑی بخشش۔

۲۔ رَغُبَ ـُ رُغْبًا و رُغُبًا و رَغَابَةً: بسیار خور ہونا، پیٹو ہونا۔ ـــ الوادی وادی کا بہت پانی سمانا۔ تراغبَ الوادی وادی کا کشادہ وفراخ ہونا۔ الرُّغُب و الرُّغَاب من الارض بارش کے پانی کو بہت جذب کرنے والی زمین۔ طریقٌ رَغْبٌ جمع رُغُب: کشادہ وفراخ راستہ۔ الرَّغِيب جمع رِغَاب: بڑے پیٹ والا آدمی وغیرہ کہا جاتا ہے: حوضٌ رَغِيب و سقاءٌ رغيب: فراخ حوض کشادہ مشک۔ فرسٌ رغيبُ الخطوَةِ: کشادہ قدم اور بہت زمین طے کرنے والا گھوڑا۔ رَغِيبُ البطن: بہت کھاؤ، پیٹو۔ حِمْلٌ رَغِيبٌ بھاری بوجھ۔ الرَّغِيبة جمع رَغَائب رغیب کی مونث، بڑے پیٹ والی عورت۔

○ رَغِبَ رَغْبَةً و رَغَبًا في کی خواہش کرنا، کو چاہنا، کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، کی التجا کرنا، درخواست کرنا، کی حرص کرنا۔ ـــ الی/من في: سے کو مانگنا۔ ـــ الی/من أن: کو کچھ کرنے کے لئے کہنا۔ ـ في: کی درخواست کرنا۔ ـــ الی/من أن: سے کچھ کرنے کی درخواست کرنا۔ ـــ في علی: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا، کو سے اچھا اور بہتر جاننا۔ ـــ ب عن: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا، کو سے اچھا اور بہتر جاننا۔ ـــ في/ب علی/عن: کو سے زیادہ پسند کرنا۔ ـــ عن: کو ناپسند کرنا، سے سخت نفرت کرنا، نفرت کرنا، کراہت کرنا، تنفر ہونا، کے لئے ناپسندیدگی رکھنا۔ ـ ل ب: کے لئے (بھلا برا) چاہنا۔ لا يُرْغَبُ فيه: ناپسندیدہ، ناگوار، تکلیف دہ۔ مَرْغُوب فيه: لالچ، طمع یا حرص کیا ہوا، مطلوب، جس کی مانگ ہو، درخواست کیا ہوا، مرغوب، خاطر خواہ، پسندیدہ، مناسب۔ غير مرغوب فيه: نامرغوب، ناپسندیدہ، نامناسب، غیر خاطر خواہ۔ شخص مرغوب فيه: مرغوب، مقبول، پسندیدہ شخص۔ شخص غير مرغوب فيه: ناپسندیدہ یا غیر مقبول شخص۔ مرغوب عنه: ناپسندیدہ، ناگوار، تکلیف دہ، نامطلوب، قابل اعتراض، قابل نفرت۔ مُرَغِّبَات: دلکشیاں، کششیں، فوائد، منافع، برتریاں۔

رغث: ا۔ رَغَثَ ـَ رَغْثًا الولدُ اُمَّهُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ ـــ ہُ: کو بار بار نیزہ مارنا۔ رُغِثَتْ: کی پستان کی رگوں میں درد ہونا۔ اَرْغَثَتِ المرأةُ: عورت کا دائی پلائی ہونا۔ ـــ تِ المرأةُ ولدَها: عورت کا اپنے بچہ کو دودھ پلانا۔ صفت: رَغُوث و رَغُوثة و مُرْغِث۔ ـ ہُ: کو پستان کی رگوں میں نیزہ مارنا، بار بار نیزہ مارنا۔ اِرْتَغَثَ الولدُ اُمَّهُ: بچہ کا ماں کا دودھ پینا۔ الرُّغَثَاء: پستان میں دودھ کی آمد کی رگیں۔

۲۔ رَغَثَ ـَ رَغْثًا القومُ فلانًا: لوگوں کا کسی سے مانگ مانگ کر اس کا سارا مال ختم کر دینا۔ رُغِثَ: کثرت سوال کی وجہ سے کسی کا مال ختم ہو جانا۔

۳۔ المُرْغَث: انگلی میں انگشتری پہننے کی جگہ۔

○ رَغَثَ ـَ رَغْثًا ها: جانور کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ رَغُوث: شیرخوار جوان مادہ جانور یا جس کا دودھ ابھی چھڑایا نہ گیا ہو۔

رغد: ا۔ رَغِدَ ـَ رَغَدًا و رَغُدَ ـُ رَغَادَةً عيشُهُ: کی زندگی کا خوشحال و بامزہ ہونا۔ رَغْدٌ و رَغَدٌ و رَغِيدٌ: خوش حال و بامزہ (زندگی)۔ اَرْغَدَ القومُ: خوشحال اور آسودہ زندگی گزارنا۔ ـــ اللّٰهُ عيشَهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی زندگی کو آسودہ حال بنانا۔ ـ القومُ مواشيهم: لوگوں کا اپنے مویشیوں کو آزادی سے چرنے دینا۔ اِسْتَرْغَدَ العيشَ: زندگی کو آسودہ پانا۔ قومٌ ونساءٌ رَغَدٌ: فراخ زندگی گزارنے والے مرد وعورت۔ یہ راغد کی جمع ہے جیسے خَدَم خادم کی جمع ہے۔ المَرْغَدَة: باغ۔

۲۔ اِرْغَادَّ: اپنے رائے میں متردد ہونا۔ ـ اللبنُ: دودھ کا کسی قدر گاڑھا ہونا اور پورا نہ جمنا۔ الرَّغِيدَة: ایک قسم کا کھانا جو دودھ اور آٹے سے تیار کیا جاتا ہے۔

○ رَغُدَ ـُ رَغَادَةً و رَغِدَ ـَ رَغَدًا: زندگی کا خوشگوار ہونا، آرام دہ ہونا، تفکرات سے آزاد ہونا۔ رَغْد: آرام دہ، باآرام، تفکرات سے آزاد، خوشگوار سہانی (زندگی)۔ عيش رَغْد: متمول اور فراوان زندگی۔ رَغِيد: آرام دہ، باآرام، تفکرات سے آزاد، خوشگوار سہانی (زندگی)۔ عيش رَغِيد: فراوانی اور تمول کی زندگی۔ رَغَد: آرام، فراوانی، مرفہ الحالی، تونگری (زندگی کی)۔ رَغَادَة: آرام، فراوانی، مرفہ الحالی، تونگری (زندگی کی)۔

○ رَغْرَغَ: فراخی اور عیش وعشرت کی زندگی گزارنا۔ رَغْرَغ: بمعنی غرغر۔ دیکھو غرغر۔

رغس: رَغَسَ ـَ رَغْسًا و اَرْغَسَ ہُ اللّٰهُ مالًا و ولدًا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو مال اور اولاد بہت دینا۔ اِسْتَرْغَسَ ہُ: کو نرم سمجھنا۔ الرَّغْس جمع اَرْغَاس: نعمت، برکت، نمو۔ المُرْغَس من العيشِ: فراخی کی زندگی۔

رغش: رَغَشَ ـَ رَغْشًا عليه: پر شور وشغب کرنا۔

○ اُرْغَاطَة جمع اُرْغَاطات و اَرَاغِيط: بوجھ اٹھانے کی کل، جہاز میں چیزیں اٹھانے کی کل۔

رغف: ا۔ رَغَفَ ـَ رَغْفًا العجينَ: گندھے ہوئے آٹا کا پیڑہ بنانا۔ الرَّغِيف جمع اَرْغِفَة و رُغُف و رُغْف و رُغْفان و تَرَاغِيف: گندھے ہوئے آٹا کا پیڑہ، روٹی، چپاتی۔

۲۔ رَغَفَ ـَ رَغْفًا البعيرَ: اونٹ کو آٹے وغیرہ کا لقمہ دینا۔

۳۔ اَرْغَفَ: تیز چلنا۔ ـ اليه: کو تیز نظر سے دیکھنا۔ وجهٌ مُرْغَف: موٹا تازہ چہرہ۔

○ رَغِيف جمع اَرْغِفَة و رُغْفَان و رُغُف: روٹی، چپاتی، میٹھا کلچا، بند، شیرمال، ایک قسم کی چھوٹی ڈبل روٹی۔

رغل: ا۔ رَغَلَ ـَ رَغْلًا الولدُ اُمَّهُ: بچہ کا ماں کا دودھ پینا۔ اَرْغَلَتِ الامُّ ولدَها: ماں کا اپنے بچہ کو دودھ پلانا۔ ـــ الجديُ اُمَّهُ: بکری کے بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ الرَّغُول: اپنی ماں کا دودھ پینے والا بکری کا بچہ۔ کہتے ہیں: هو رَمٌ رَغُولٌ: وہ ہر چیز کو غنیمت سمجھنے والا اور اسے کھا لینے والا ہے۔

۲۔ اَرْغَلَ الرجلُ: غلطی کرنا، بہکنا، بھٹکنا، گمراہ ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو بے جگہ رکھنا، اس کی جگہ پر نہ رکھنا۔

۳۔ اَرْغَلَ اليه: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔

۴۔ اَرْغَلَ الزرعُ (ز): کھیتی کے خوشوں میں دانہ پڑنا۔

۵۔ اَرْغَلَ الماءَ: پانی بہت گرانا۔

۶۔ اَرْغَلَ المكانُ: کسی جگہ کا رُغل گھاس اُگانا۔ الرُّغْل جمع اَرْغَال (ن): ایک تلخ گھاس۔

۷۔ الأَرْغَلُ من العيش: آسودہ زندگی۔

رغم: رَغَمَ ـَ رَغْمًا ہُ: کو مغلوب ومقہور کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو ناپسند کرنا۔ ـــ ـُ رُغْمًا و رَغْمًا اَنفُهُ لِلّٰهِ: اللہ تعالیٰ کے لئے ذلیل ہونا، فروتنی کرنا۔ صفت: رَاغِمُ الانف جمع رُغْمُ الأُنوف: رَغِمَ ـَ رَغْمًا و رَغَمًا اَنفُهُ لِلّٰهِ: اللہ تعالیٰ کے لئے ذلیل ہونا، فروتنی کرنا۔ ـــ ہُ: کو ناپسند کرنا۔ رَغَّمَ ہُ: کو ذلیل کرنا اور اس کو رُغْمًا رُغْمًا کہنا یعنی اپنے لئے ذلت مانگ۔ ـ اَنفَهُ: اپنی ناک کو خاک آلود کرنا۔ کہا جاتا ہے: رَغَّمَ اللّٰهُ انفه: اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے۔ ـــ فلانٌ اَنفَهُ: فروتنی کرنا۔ رَاغَمَ ہُ: باہم غضبناک ہونا، ایک دوسرے کو چھوڑنا اور آپس میں دشمنی کرنا، سے غصہ سے علیحدگی اختیار کرنا۔ اَرْغَمَ ہُ: کو ذلیل کرنا، ناراض کرنا، ناپسندیدہ کام پر اکسانا۔ ـ ہُ الذلَّ: عاجزی کا کسی کو گرد آلود کرنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اللّٰہُ انفَہٗ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو ذلیل کرنا۔ ـــ اھلَہٗ: اپنے اہل کو ناخوشی سے چھوڑ دینا۔ ـــ اللقمةَ من فیه: اپنے منہ کے لقمہ کو مٹی میں ڈالنا۔ ـــ ت الغنمُ او الظباءُ: بکریوں یا ہرنیوں کا ریت بہنا۔ تَرَغَّمَ علیه: پر غضبناک ہونا۔ ـــ تُ الرجلَ: میں نے اس کے خلاف طبع کام کیا۔ الرُّغم و الرَّغم و الرِّغم: ناپسندیدگی (کہا جاتا ہے: انی علی رغمه: وہ اپنی خلاف مرضی آیا) جبر، ذلت، مٹی۔ راغِمُ الانْفِ جمع رُغَّمُ الانوف: ذلیل۔ الرُّغام جمع ارْغِمَة: رینٹ، ناک کی ریزش۔ الرَّغام: مٹی یا مٹی ملی ریت، ذلت، مرضی کے خلاف فرمانبرداری۔ الرُّغامَة: حاجت، ضرورت۔ کہا جاتا ہے: لی عند فلانٍ رُغامَة: فلاں کے پاس میری حاجت ہے۔ الرَّغماء من الشاء: بکری جس کے ناک کے کنارے پر سفیدی یا ایسا رنگ ہو جو اس کے تمام جسم سے مختلف ہو۔ المَرْغَم و المَرْغِم جمع مَراغِم و الرغامَی: ناک۔ المُراغَم (مفعول): کھیلنے کا میدان، بھاگنے کی جگہ، جانے کی جگہ۔ (کہا جاتا ہے: اِذْلَمِّیَ عن دارِ الهوان مُراغَمٌ: میرے لئے ذلت کے مقام سے بھاگنے کی جگہ ہے)، قلعہ۔ المِرْغام مؤنث مِرْغامَة: غضبناک کرنے والا، غصہ میں لانے والا۔ المَرْغَمَة: ناپسندیدگی۔ کہا جاتا ہے: فعلت ذلك علی مرغمته: میں نے وہ کام اس کی ناپسندیدگی کے باوجود کیا۔

○ ارْغَمَ ہٗ علی: کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرنا، سے زبردستی کوئی کام کروانا، پر کوئی کام کرنے کے لئے دباؤ ڈالنا۔ رَغْمَ: کے باوجود، کے باوصف، کے ہوتے ہوئے، کے علی الرغم۔ رَغْمَ اَنْ: اگرچہ، ہرچند، باوجودیکہ۔ رَغْمًا عن: کے باوجود، کے باوصف، کے ہوتے ہوئے۔ رَغْمًا عن انفِهٖ اور علی الرغم من انفه: اس کی مرضی کے خلاف، کی عدول حکمی کرتے ہوئے، کو نیچا دکھانے، نقصان پہنچانے یا کی مخالفت کرنے کے لئے۔ بالرغم من، بالرغم عن اور علی الرغم من: کے باوجود، کے باوصف، کے ہوتے ہوئے، کے علی الرغم۔ بالرغم من کلِّ هذا: اس سب کے باوجود۔ بالرغم منه و علی الرغم منه: کی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف، چاروناچار، بے دلی سے، بادل ناخواستہ، ناراضامندی سے۔ علی رغمٍ منّی: میرے چاہنے کے بغیر۔ بالرغم من اَنَّ: اس حقیقت کے باوجود، اگرچہ، باوجودیکہ۔ لا ...... الا رَغْمًا: صرف چاروناچار، بے دلی سے، بادل ناخواستہ، صرف بڑی کوشش سے۔ رَغام: مٹی اور ریت۔ رُغام: بلغم، لیس دار مادہ۔ رُغامَی: نرخرا، سانس کی نالی، ہوا کی نالی۔ مَرْغَمَة جمع مَراغِم: مجبوری، دباؤ، جبر، قوت، طاقت، نفرت، بیزاری، ناراضامندی، ہچکچاہٹ، بیدلی، غیر آمادگی، ناپسندیدگی، کراہت۔ ارغام علی: پر مجبور کرنا۔ راغِم: ناراضامند، غیر آمادہ، بیدل۔ وَاَنْفُهٗ راغِمٌ: بے دلی سے، بادل ناخواستہ، چاروناچار، ناراضامندی سے۔

رغن: رَغَنَ ـ رَغْنًا فیه: کی طمع کرنا۔ ارْغَنَ ہٗ: کو طمع و لالچ دینا۔

۲۔ رَغَنَ ـ رَغْنًا الیه: پر/کی طرف کان لگانا۔ ارْغَنَ الیه: پر/کی طرف کان لگانا۔ ـــ لفلانٍ: کی اطاعت کرنا۔ ـــ الامرَ: کام کو آسان و سہل کرنا۔

۳۔ الأُرْغُن و الأُرْغُنون: آرگن، ایک قسم کا باجہ۔

رغا: ارَغَا ـ رُغاءً البعیرُ او النعامُ او الضبعُ: اونٹ کا بلبلانا، شتر مرغ کا اور بجو کا چیخنا چلانا۔ الصبیُّ: بچہ کا زور سے رونا۔ ـــ الرعدُ: بادل کا زور سے کڑکنا، گرجنا۔ رَغْوًا ہٗ: کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا۔ رَغّی تَرْغِیَةً ہٗ: کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا۔ ـــ فلانًا: کو غضبناک کرنا۔ ارْغَی اِرْغاءً ہٗ: کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا۔ کہا جاتا ہے: ارغی الرجلُ و اَزْبَدَ: آدمی غصہ سے چیخا اور دھمکی دی۔ اتیته فما اثغی ولا ارْغی: میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھ کو نہ بکری دی نہ اونٹنی۔ الراغیة: اونٹنی۔ کہتے ہیں: ماله ثَاغِیَةٌ ولا راغیةٌ: اس کے پاس بکری ہے نہ اونٹنی۔

۲۔ رَغَا ـ رَغْوًا و رَغّی ترغِیَةً و ارْغی اِرْغاءً اللبنُ و نحوہ: دودھ وغیرہ میں جھاگ اٹھنا۔ اِرْتَغی اللبنَ: دودھ سے جھاگ اتارنا۔ ـــ الرِغْوَة: جھاگ پینا۔ الرُّغْوَة و الرَّغْوَة و الرِغْوَة جمع رُغًی و رِغًی و الرُّغایَة و الرِغایَة و الرِغاوَة و الرُّغاوی و الرَّغاوی من اللبن: دودھ کا جھاگ۔ المِرْغاة: کف گیر۔ المُرَغّی من الکلام: مبہم کلام۔

○ رَغا ـ رَغْوًا: جھاگ لانا، جھاگ دینا۔ ارْغی: جھاگ لانا، جھاگ دینا۔ ارْغی و اَزْبَدَ: سخت غصہ ہونا۔ رَغْوَة و رُغْوَة جمع رَغاوٍ: جھاگ، پھین، صابن کا جھاگ یا پھین، دھات کا میل۔ رَغْوِیّ: کف آلود، جھاگ کا (سا)، محض لفاظی پر مشتمل۔ رَغّاء: باتونی مقرر، بے معنی باتوں میں وقت ضائع کرنے والا، بکواسی، باتونی، بھڑ، بھڑیا، بکو۔ رُغاوَة: جھاگ، پھین۔ ماله ثاغیةٌ و لا راغیةٌ: اس کے پاس مطلقاً کچھ نہیں، وہ تمام وسائل سے محروم ہے۔ لفظی مفہوم: اس کے پاس نہ تو میں میں کرنے والی بھیڑ ہے نہ بلبلانے والا اونٹ۔

رف: ارَفَّ ـ رَفًّا: بہت کھالینا۔ ـــ اللبنَ: دودھ ہر روز پینا۔ ـــ شَفَتَیْهِ: اپنے ہونٹ چوسنا۔ ـــ الدابةَ: جانور کو بھوسہ کھلانا۔ الرُّفّ و الرُّفَّة: بھوسہ، بھوسے کا چورا۔ الرِّفّ: ہر روز کا پینا۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَتْهُ الحُمَّی رِفًّا: اس کو ہر روز بخار آیا۔ الرُّفاف: بھوسے کا چورا۔

۲۔ رَفَّ ـ رَفًّا ہٗ: کی خدمت کرنا، سے احسان، بھلائی کرنا، کی ہر قسم کی خدمت کرنے میں کوشش کرنا۔ ـــ الناسُ بہ: کو لوگوں کا گھیر لینا (کہا جاتا ہے: ذهَبَ من کان یحفُّهٗ و یرفُّهٗ: جو اسے سینے سے لگاتا تھا اور اس سے ہمدردی کرتا تھا چلا گیا۔) ـــ بہ: کی عزت و اکرام کرنا۔ ـــ الی کذا: سے خوش ہونا۔ ارْتَفَّ اِرْتِفافًا تِ الدجاجةُ علی بَیْضِها: مرغی کا اپنے انڈوں پر پر پھیلانا۔

۳۔ رَفَّ ـ رَفّاتِ العینُ: آنکھ کا پھڑکنا۔ ـــ البرقُ: بجلی کا چمکنا، کوندنا۔ ـــ رَفًّا و رَفِیفًا لونُهٗ: کا رنگ چمکنا، تمتمانا۔ ـــ و اِرْتَفَّ النباتُ: سبزہ کا لہلہانا۔ الرَّفِیف: فراخ سالی۔ فتی رفیفُ الاخلاق: اچھے اخلاق والا نوجوان۔ الرَّفّاف: اسم مبالغہ، بہت چمکدار۔ کہا جاتا ہے: ثغرٌ رَفّافٌ: بہت چمکدار دانت۔

۴۔ رَفَّ ـ رَفًّا البیتَ: گھر کے لئے الگنی بنانا۔ الرَّفّ (مص) جمع رُفُوف و رِفاف: الگنی یا مچان۔ الرَّفِیف: چھت۔

۵۔ رَفَّ ـ رَفًّا ثَوْبَهٗ: دوسرا کپڑا لگا کر اس کو نیچے سے کشادہ کرنا۔

۶۔ الرَّفّ جمع رُفُوف و رِفاف: باریک، عمدہ ریت، مویشیوں کا ریوڑ، پرندوں کا جھنڈ، ٹولہ، نرم کپڑا، بکریوں کا باڑہ۔ الرِّفّ: اونٹوں کا گلہ۔

۷۔ رَفْرَفَ الشیءُ: چیز کا آواز نکالنا۔ ـــ الطائرُ: پرندہ کا پر پھڑپھڑانا۔ الرَّفْراف (ح): ایک قسم کا پرندہ اسے خاطف ظلہ بھی کہتے ہیں۔

۸۔ الرَّفْرَف: جمع رَفارِف: لکڑی وغیرہ کی الگنی یا مچان جس پر گھر کی چیزیں رکھتے ہیں، درخت یا پودے کی لٹکنے والی شاخ۔ ہر زائد موڑی ہوئی شے، فرش، بچھونا، تکیہ، ریشمی باریک کپڑا، کپڑے کا ٹکڑا جو پردوں اور

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

خیموں کے زیریں حصہ میں سیا جاتا ہے۔ (کہا جاتا ہے: ضربت الریحُ رفرفَ الفسطاط: ہوا خیمہ کے نچلے حصہ کو لگی) خیمہ کا دامن، زرہ کے کنارے، زرہ کا لٹکنے والا حصہ۔ رفرف الدِّرْع: جالی دار بنی ہوئی زرہ۔

○ رَفَّ ـِ رَفًّا و رَفِیفًا: چمکنا، روشن ہونا، جگمگانا، تاباں ہونا، درخشاں ہونا، بھڑکنا، رہ رہ کر چمکنا، جھلملانا، ٹمٹمانا، جھمکنا۔ ـــ ـُ رَفًّا: کانپنا، تھرانا، پھڑکنا، (پرندہ کا) پر جھاڑنا، پھڑپھڑانا، پروں کو پھڑپھڑانا، تھوڑے فاصلہ تک اڑنا، لہرانا، لہلہانا، کا دریا بہنا، چمکنا، کوندنا، ایک لحہ کے لئے شعلہ کا لرزنا، یا لپکنا، اچانک دکھائی دینا۔ ـــ لِ: کو خوش کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہونا، کی تندہی سے خدمت کرنا۔ رَفَّ علی ذاکرتِہ: کو اچانک سوجھنا، ذہن میں یکایک آنا، بجلی کی طرح (خیال) کوندنا۔ رَفّ: (پرندوں کی) پرواز، جھولی۔ رَفّ جمع رُفُوف و رِفاف: دیوار کا طاقچہ، تختہ، ریک، خانہ کگر، کھڑی چٹان کے پہلو سے ابھرا ہوا پتھر۔ وضعہ علی الرف: کو تختہ پر رکھنا، ایک طرف رکھنا، کھٹائی میں ڈالنا۔ رَفّاف: چمکدار، روشن، تابان، شعلہ فشاں، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، منور۔

رفا: ا۔رَفَأَ ـَ رَفْأً السفینةَ: کشتی یا جہاز کو کنارے کے قریب کرنا۔ ـــ الثوبَ: کی پھٹن کو سینا، کپڑا رفو کرنا۔ ـــ بینَھم: کے مابین صلح کرانا۔ ارْفَأَ الیہ: کے قریب ہونا، کے پاس پناہ لینا۔ ـــ ت السفینةُ: کشتی یا جہاز کا کنارے یا ساحل سے قریب ہونا۔ ـــ الشیءَ الیہ: چیز کو اپنے قریب کرنا۔ ـــ الرجلُ: کنگھی کرنا۔ الرَّفَّاء: رفوگر۔ المَرْفَا و المُرْفَا جمع مَرَافِیٔ من البحر: بندرگاہ۔

۲۔رَفَأَ ـَ رَفْأَہٗ: کو خوف سے تسکین دینا، سے دوستی کا اظہار کرنا۔ رَفَّأَ تَرْفِئَةً و تَرْفِیئًا ہٗ: کو مبارکباد دینا اور بالرفاء و البنین کہنا۔ ان الفاظ سے شادی شدہ کو دعا دی جاتی ہے کہ تم دونوں کے درمیان اتحاد و اتفاق رہے اور تم کو اولاد نصیب ہو۔ رَافَأَ و ارْفَأَہٗ: سے مدارات کے ساتھ پیش آنا، محبت کا اظہار کرنا۔ تَرَافَأَ القومُ علی الشیءِ: پر آپس میں اتفاق کرنا، باہم مدد کرنا۔ الرِفاء: اتفاق، اتحاد۔

○ رَفَا ـُ رَفْأً ہٗ: کپڑے کی مرمت کرنا، اصلاح کرنا، کپڑے کو رفو کرنا، کپڑے کی پھٹی ہوئی جگہ سی دینا، رفو کرنا۔ ـــ ہٗ: کشتی کو کھینچ یا گھسیٹ کر کنارے پر لانا۔ رَفَّاء: رفوگر۔ رِفاء: (ازدواجی) ہم آہنگی، محبت۔ بالرِفاء و البنین: (نئے شادی شدہ جوڑے کو دعا) اتفاق و اتحاد سے رہو، اور تمہارے بچے ہوں۔ مَرْفَا جمع مَرَافِیٔ: فرودگاہ، مال گودی، گھاٹ، بندرگاہ۔

رفت: رَفَتَ ـِ رَفْتًا: ٹوٹنا، کوٹا جانا۔ ـــ الشیءَ: کو توڑنا، کوٹنا۔ ـــ الحبلُ: رسی کا کٹ جانا۔ ـــ العظمُ: ہڈی کا چورا چورا ہونا۔ تَرَفَّتَ و ارْفَتَّ: ٹوٹنا، کوٹا جانا۔ ـــ الحبل: رسی کا کٹ جانا۔ ـــ العظم: ہڈی کا چورا چورا ہونا۔ الرُّفَت: ہر چیز کو توڑنے والا، بھوسہ۔ الرُّفَات: چورہ، ریزہ، ہر ٹوٹی اور بوسیدہ چیز۔

○ رَفَتَ ـُ رَفْتًا ہٗ: کو توڑنا، توڑ پھوڑ ڈالنا، پاش پاش کرنا، تہس نہس کرنا، پیسنا، پیس ڈالنا، کچل ڈالنا، مسترد کرنا، کا انکار کرنا۔ ـــ ہٗ: کو ملازمت سے برخاست کرنا، علیحدہ کرنا۔ رفت: برخاستگی (ملازمت سے) برخاستگی، موقوفی، سبکدوشی۔ رُفات: فانی لاش، نعش، (کسی شخص کا) جسم۔

○ رُفْتِیَة: عبور کرنے کا محصول، کلیرنس سرٹیفکیٹ، کلیرنس کے کاغذات۔

رفث: رَفَثَ ـُ رَفْثًا و رَفِثَ ـَ رَفَثًا و ارْفَثَ فی کلامہ: فحش گوئی کرنا۔ الرَفَث (مص): فحش کلام۔

○ رَفَثَ ـُ رَفْثًا: ناشائستہ انداز سے پیش آنا، فحش رویہ اختیار کرنا۔ رَفَث: فحاشی۔

رفح: رَفَّحَ ہٗ: نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔

○ رَفَح: جنوبی غازہ کے ایک شہر کا نام۔

رفخ: عیشٌ رَافِخٌ: آسودہ زندگی۔ الرُفُوخ: مصائب۔

رفد: ا۔رَفَدَ ـِ رَفْدًا ہٗ: کو دینا، کی مدد کرنا، عطیہ بخشنا۔ ـــ الحائطَ: دیوار کو سہارا دینا۔ ـــ الدابَّةَ و علیھا: جانور کے لئے پالان بنانا۔ رَفَّدَ ہٗ: کی تعظیم کرنا۔ کو سردار بنانا۔ رافَدَہٗ: کو مدد دینا۔ ارْفَدَہٗ: کو دینا، عطیہ بخشنا، مدد دینا۔ ـــ للدابَّة: جانور کے لئے پالان بنانا۔ تَرَافَدَ القومُ: باہم مدد کرنا۔ ارْتَفَدَ المالَ: مال کمانا، حاصل کرنا۔ اِسْتَرْفَدَہٗ: سے مدد چاہنا، بخشش چاہنا۔ الرَفْد (مص): حصہ۔ کہا جاتا ہے: اُرِیقَ رَفْدُہٗ: وہ مرگیا۔ الرِفْد جمع ارْفَاد و رُفُود: مدد، بخشش، عطیہ، تحفہ، سہارا۔ الرِفْدَة جمع رِفَد: لوگوں کا گروہ۔ الرافِد (فا) جمع رُفَّد: بادشاہ کی عدم موجودگی میں اس کا قائم مقام۔ الرَافِدَة جمع رَوَافِد: پل کے اوپر چھت کی لکڑی۔ عوام اس کو ڈصلہ کہتے ہیں۔ الرِفادَة: زین، زین یا کجاوے کی چیز، زخم کی پٹی۔ المِرْفَد جمع مَرَافِد: مدد۔

۲۔الرَفْد: بڑا پیالہ۔ الرِفْد جمع ارْفَاد و رُفُود: بڑا پیالہ۔ ناقةٌ رَفُود جمع رُفُد: وہ اونٹنی جو ایک ہی بار دوہنے سے بڑا پیالہ دودھ سے بھر دے۔ الرَّافِدان: دجلہ و فرات (عراق کے دو دریا)۔ المِرْفَد جمع مَرَافِد: بڑا پیالہ۔ المَرَافِید: بکریاں جو موسم گرما و سرما میں لگاتار دودھ دیں۔

○ رَفَدَ ـِ رَفْدًا ہٗ: کو سہارا دینا، کی مدد کرنا۔ ـــ ہٗ: کو سہارا دینا، برقرار رکھنا، کو پاس رکھنا، کو لئے لئے یا اٹھائے اٹھائے پھرنا۔ ارْفَدَہٗ: کو سہارا دینا، کی حمایت کرنا، تائید کرنا، مدد کرنا۔ اِسْتَرْفَدَہٗ: سے سہارا دینے، تائید کرنے، یا حمایت کرنے کے لئے کہنا، سے مدد کی اپیل کرنا۔ رِفْد جمع رُفُود و ارْفاد: تحفہ، ہدیہ، ہبہ، سہارا، تائید، حمایت، کفالت۔ رِفادَة: زخم پر بندھی ہوئی پٹی، کاٹھی، زین کا کپڑا، گدی۔ رَافِد جمع رَوَافِد: معاون دریا۔ الرافدان: دجلہ و فرات، میسوپوٹامیا، عراق۔ رَافِدَة جمع رَوَافِد: سہارا، آسرا، پیل پایہ، (ٹیڑھی چھت کا) شہتیر۔ ناٹو اور شہتیروں کا بیڑا۔

رفس: ا۔رَفَسَ ـُ رَفْسًا و رِفَاسًا ہٗ: کے سینہ پر مارنا۔ الرَفْسَة: سینہ پر لات کی ضرب۔ نَاقةٌ رَفُوس: وہ اونٹنی جو لات مارے۔

۲۔رَفَسَ ـِ رَفْسًا و رِفَاسًا اللحمَ و نحوہ: گوشت وغیرہ کا قیمہ بنانا۔

۳۔رَفَسَ ـِ رَفْسًا و رِفَاسًا البعیرَ: اونٹ کے پاؤں باندھنا۔ الرِفاس: اونٹ کے پاؤں میں باندھنے کی رسی۔

○ رَفَسَ ـُ رَفْسًا ہٗ: کو ٹھوکر لگانا، لات مارنا، کو ٹھکرانا، لاتوں سے مارنا۔ رَفْسَة: ٹھوکر، لات، دولتی۔ رَفَّاس: دخانی کشتی، ٹگ (motor tug)، مشین کا پنکھا، Poropeller۔

رفش: ا۔رَفَشَ ـُ رَفْشًا: خوب کھانا پینا۔ ـــ الشیءَ: کو کوٹنا۔

۲۔رَفَشَ ـُ رَفْشًا القمحَ: گیہوں کو بیلچہ سے اٹھا کر لیجانا۔ ـــ رُفُوشًا فی الامر: میں کشادہ ہونا۔ رَفِشَ ـَ رَفَشًا: چوڑے کانوں والا ہونا۔ صفت: ارْفَش مونث رَفْشاء جمع رُفْش۔ رَفَّش لحیتَہٗ: داڑھی میں کنگھا کر کے بیلچے جیسا بنا دینا۔ الرَفْش: بیلچہ، کشتی کا چپو۔ الرَفَّاش: بیلچہ سے غلہ کا ڈھیر لگانے والا۔ المِرْفَشَة: بیلچہ۔

○ رُفْش: بیلچہ، کرچھا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رفص: تَرَافَصُوا الماءَ: گھاٹ پر باری باری سے اترنا، ہر آنے والے کو رفیص کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: هو رفيصُك: وہ پینے میں تیرا ساتھی ہے، ہم پیالہ ہے۔ اِرْتَفَصَ السعرُ: بھاؤ چڑھنا، گرانی ہونا۔ الرُّفْصَة: پانی پینے کی باری۔

◌ رَفَّاص بمعنی رَفّاس: دخانی کشتی، لانش۔ (Launch)

رفض: رَفَضَ ـُ رَفْضًا و رَفَضًا الشيءَ: کو پھینکنا، چھوڑنا۔ صفت: رافِض جمع رَافِضُون و رَفَضَة و رُفَّاض۔ ــــ الابلَ: اونٹوں کو چراگاہ میں متفرق چھوڑ دینا۔ ــــ الوادِيَ: وادی کا کشادہ ہونا۔ ــــ ـُ رُفُوضًا تِ الابلُ: اونٹوں کا چرواہے کے سامنے تتر بتر ہو کر چرنا، جدا جدا چرنا۔ اَرْفَضَ الابلَ: اونٹوں کو چراگاہ میں متفرق چھوڑ دینا۔ ــــ الوادی: وادی کا کشادہ ہونا۔ تَرَفَّضَ: بکھرنا، متفرق ہونا، ٹوٹنا۔ ــــ الدمعُ: آنسوؤں کا بہنا، ٹپکنا۔ اِرْفَضَّ الشیءُ: متفرق ہو کر جانا۔ اسی سے ہے: اِرْفَضَّ الناسُ عنہ: لوگ اسے چھوڑ کر اِدھر اُدھر منتشر ہو گئے۔ ــ الدمعُ: آنسوؤں کا بہنا، آنسوؤں کے چھینٹے پڑنا۔ ــ الجرحُ: زخم کا پیپ بہانا۔ کی پیپ بہنا۔ ــــ الوجعُ: درد مٹنا، جاتا رہنا۔ اِسْتَرْفَضَ الوادی. وادی کا کشادہ ہونا۔ الرَّفْض (مص) جمع رِفاض و الرَّفَض جمع اَرْفَاض. اونٹوں یا ہرنیوں کا بکھرا ہوا گلہ و ریوڑ۔ کہا جاتا ہے: نعامٌ رَفَضٌ: چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بکھرے ہوئے شتر مرغ، ہر ٹوٹ کر بکھری ہوئی چیز، تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے: في القربة رَفْضٌ من ماءٍ: مشک میں تھوڑا سا پانی ہے۔ رجُلٌ قُبَضَةٌ رُفَضَةٌ: کسی چیز کو تھامے رکھنے کے بعد چھوڑ دینے والا۔ الرافِضَة: شیعوں کا ایک فرقہ۔ اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے کو رافضی کہتے ہیں۔ روافض کا ایک فرقہ جنہوں نے جنگ یا کسی اور مسئلہ میں اپنے قائد کو چھوڑ دیا اسی سے یہ قول ہے: لا خیرَ فی الروافض: یعنی رافضیوں میں خیر مطلقاً نہیں۔ الرُّفَاض من الشیء: ٹوٹ کر بکھری ہوئی چیز۔ الرِفَاض: متفرق راستے، راستوں کی جھریاں۔ الرُّفُوض: علیحدہ علیحدہ بکھرا ہوا گھاس۔ رُفُوضُ الناس: لوگوں کے گروہ۔ ــ الارضِ: غیر مملوکہ زمین، ذاتی چراگاہ بننے کے بعد متروکہ زمین۔ الرَّفِيض: چھوڑا ہوا، پسینہ، ٹوٹا ہوا نیزہ۔ ــ والمَرفُوض: چھوڑا ہوا، متروک۔ المَرْفِضُ من الوادی جمع مَرَافِض: سیلاب بہنے کی جگہ۔

◌ رَفَضَ ـُ رُفُضًا ہ: کو چھوڑنا، ترک کرنا، کو (بے کار سمجھ کر) پھینک دینا، جانے دینا، کو مسترد کرنا، کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا۔ اَرْفَضَ: ختم ہونا، خاتمے پر پہنچنا۔ تَرَفَّضَ: کٹر ہونا، متعصب ہونا، مذہبی جوش والا ہونا۔ اِرْفَضَّ: بکھرنا، منتشر ہونا، ختم ہونا، اختتام پذیر ہونا، (تکلیف) ختم ہو جانا، دور ہو جانا، جاتا رہنا، (پسینہ) ٹپکنا۔ رَفْض: برخاستگی، استرداد، نامنظوری، انکار، عدم قبولیت۔ رفِيض: چھوڑا ہوا، مسترد کیا ہوا، برخاست کیا ہوا۔ تَرَفُّض: تعصب، کٹرپن۔ رَافِضَة جمع رَوَافِض: ابنائے وقت، غدار، اختلاف رائے رکھنے والے، منحرفین، فوجی دستے جو اپنے قائد کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ روافض: ایک شیعہ فرقہ۔ رَافِضی جمع اَرفاض: مرتد، غدار، ابن الوقت، رافضی، باغی، سرکش، بے وفا، نمک حرام، کٹر، متعصب، مذہبی جوش والا۔

رفع: ۱۔ رَفَعَ ـَ رَفْعًا الشیءَ: کو اٹھانا، لینا۔ ــــ الکلمة: کلمہ پر رفع کی علامت لگانا۔ ــــ القومُ: ملک میں بڑھتے چلے جانا۔ ــ الحدیثَ: حدیث کی سند پہلے قائل تک پہنچانا۔ ــ رَفْعًا و رَفَاعًا و رَفَاعَةً القومُ الزرعَ: لوگوں کا فصل کو کٹائی کے بعد کھلیان میں لیجانا۔ کہا جاتا ہے: فلان لا یرفع العصا عن عاتقہ: فلاں شخص بہت سفر کرتا ہے۔ هذا امرٌ یرفع الرأسَ: یہ کام عزت و احترام عطا کرنے والا ہے۔ رَفُعَ ـُ رِفْعَةً و رَفَاعَةً: قدر میں بلند ہونا، بلند درجہ والا ہونا۔ صفت: رفیع۔ ــ رفاعَةً: بلند آواز ہونا۔ رَفَّعَ ہ: کو بلند کرنا۔ ــ القومَ: قوم کو لڑائی سے دور کرنا۔ تَرَفَّعَ: اپنی برتری جتانا۔ کہا جاتا ہے: ترفعت بی هِمَّتِی عن کذا: میری بلند نظری اس بات سے بالاتر ہے۔ ــ الشیءَ او الرجلَ: چیز کو یا آدمی کو بلند کرنا۔ تَرَافَعَا: ایک دوسرے کو بلند کرنا، اٹھانا۔ اِرْتَفَعَ: بلند ہونا۔ ــــ الشیءَ: کو بلند کرنا، اٹھانا۔ ــــ السعرُ: بھاؤ کا چڑھنا، گرانی ہونا۔ ــــ النهارُ: دن کا چڑھنا، لمبا ہونا۔ ــــ من بینهم الخصام: ان کے درمیان جھگڑا رفع دفع ہوا۔ اِسْتَرْفَعَ الشیءَ: کو اونچا کرنے کی درخواست کرنا۔ ــــ الخِوانُ: دسترخوان کا کھانے سے خالی ہو کر اٹھائے جانے کے قریب ہونا۔ الرَّفِیع: رفعت والا۔ رجلٌ رفیع الصوت: شریف۔ الرِفْعَة (مص): قدر و منزلت کی بلندی۔ الرافِعَة او المُخْل (ف): کرین (crane)، بوجھل چیزوں کو اٹھانے کا آلہ۔ الرَّفَاع و الرِفَاع: کھیتی میں دانہ کا موٹا ہونا، کٹی ہوئی فصل کو کھلیان میں لے جانا۔ الرُّفَاعَة و الرَّفَاعَة و الرِفَاعَة من الصوت: آواز کی بلندی اور کرختگی۔ الإرْتِفَاع: بلندی مثلث، ہرم اور مخروط میں سرے نکل کر مثلث کے قاعدہ تک ختم ہونے والا عمود، دو قاعدوں کے درمیان کا عمود۔ ارتفاعُ کوکبٍ ما (فلك): کسی ستارے کی بلندی: افق اور زمین اور ستارے کے درمیان مستقیم واقع ہونے والا زاویہ۔ المِرْفَع: چیز جس سے اٹھایا جائے۔ المِرْفَاع (ا ح): آتشی اسلحہ میں نشانہ لگانے کی ایک کل۔ المَرْفُوع (مفعول) من الکلام: بلند آواز گفتگو۔ الحدیث المرفوع عند المحدثین: محدثین کی اصطلاح میں: وہ حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر پہنچتی ہو۔

۲۔ رَفَعَ ـَ رَفْعًا فلانا علی صاحبه فی المجلس: کسی کو مجلس میں آگے بڑھانا۔ ــــ الجملُ فی السیر: اونٹ کا تیز چلنا۔ ــــ الجملَ: اونٹ کو تیز چلانا۔ ــــ رَفْعًا و رُفْعانًا زیدًا اِلی الحاکم. (زید) کو فیصلہ کے لئے حاکم کے پاس لے جانا۔ ــــ ہ اِلی السلطان: کو بادشاہ کے پاس لے جانا، قریب کرنا۔ رُفِعَ له الشیءُ: کو دور سے دیکھنا۔ رَافَعَ ہُ اِلی الحاکم: حاکم سے کسی کی شکایت کرنا اور اسے حاکم کے سامنے فیصلہ کے لئے لے جانا۔ تَرَافَعَ الخصمان اِلی الحاکم: دو خصموں (مخالف فریقوں) کا حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لیجانا۔ الرَافِع جمع رَفَعَه: خفیہ پولیس کا آدمی۔ برقٌ رافع: چمکنے والی بجلی۔ الرَفِیْعَة: حاکم کے روبرو پیش کیا ہوا معاملہ۔ المَرفَع و المُرافِع عند المسیحین: روزوں سے پہلے کے جانے بوجھے دن۔ المَرْفُوع (مفعول): ایک قسم کی تیز دوڑ۔

۳۔ رَفَعَ ـَ رَفْعًا الشیءَ فی خزانته: کوئی چیز چھپانا۔ رَافَعَ ہُ: کسی سے تعلقات قطع کرنا۔ ــ بهم: پر رحم کرنا۔

۴۔ رَفُعَ ـُ رَفَاعَةً الثوبُ: کپڑے کا باریک ہونا۔ صفت: رَفِیع۔ الرَفِیع (فی استعمال العامة): دقیق۔ کہا جاتا ہے: خیطٌ رفیعٌ: باریک دھاگا۔ نسیجٌ رفیع: باریک کپڑا۔

◌ رَفَعَ ـَ رَفْعًا ہ: کو اٹھانا، اوپر اٹھانا، اونچا کرنا (جیسے سر اٹھانا)، (مجازاً) بھاؤ چڑھانا، ذہنی سطح بلند کرنا۔ ــ ہ: کو بلند یا بلند تر بنانا، بلند کرنا، اونچا کرنا، کو پاس و لحاظ میں بڑھانا، زیادہ کرنا۔ ــــ ہ إلی: کو (عہدہ، درجہ، رتبہ حیثیت میں) ترقی دینا۔ ــــ ہ: کو اڑانا (جیسے پتنگ کو)۔ ــ عَلَمًا او رایةً: (جھنڈا، پرچم)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اٹھانا، اونچا کرنا، بلند کرنا۔۔۔۔ قُبْعَتَہُ: اپنا ہیٹ اتارنا۔۔۔۔ ہ: کو اونچا رکھنا، باندھنا، لگانا، جوڑنا، سیدھا کھڑا کرنا، بنانا، تعمیر کرنا۔۔۔۔ صوتَہُ: اپنی آواز بلند کرنا۔۔۔۔ ہ من/عن: کو سے ہٹانا، الگ کرنا، اٹھا لے جانا۔۔۔۔ ہ: کو یکسر ختم کر دینا، منسوخ کرنا، نکال دینا۔۔۔۔ ہ: (پابندی) اٹھانا، کا خاتمہ کرنا، (غلطی) کا حل کرنا، علاج کرنا۔۔۔۔ عن ہ: کو سے آزاد کرنا، کو سے سبکدوش کرنا۔۔۔۔ ہ اِلی: کو کے آگے رکھنا، (درخواست وغیرہ) کو کی خدمت میں پیش کرنا، رپورٹ وغیرہ کو متعلقہ افسر وغیرہ کے پاس بھیجنا۔ کو کی خدمت میں پیش کرنا، کو کے نام معنون کرنا۔۔۔۔ ہ: (قربانی) پیش کرنا۔۔۔۔ تقریراً: رپورٹ کرنا۔۔۔۔ قضیۃً: قانونی کارروائی شروع کرنا۔۔۔۔ ہ الی: حدیث نبوی ﷺ کو سرچشمہ سے نسبت دینا۔۔۔۔ ہ: لفظ کو رفع دینا۔ رُفِعَ ل: کے سامنے نمودار ہونا، ظاہر ہونا، کی آنکھوں کے سامنے ہونا۔ رُفِعَ عنہ: اُسے ہوش آ گیا۔ رَفَعَ شیئاً فوق شیءٍ: ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے سامنے یا اوپر رکھنا۔ رَفَعَ بہ راساً: کسی چیز پر توجہ دینا۔ رَفَعَ من شانہ: کی اہمیت بڑھانا، کی بہت تعریف کرنا۔ رَفَعَ من مکانتِہِ: کو اونچے درجے میں لانا۔ رَفَعَ یَدَیہِ عنہ: سے باز رہنا۔ رَفَعَ الدعوی علیہ امام: کی عدالت میں کسی کے خلاف نالش کرنا، مقدمہ دائر کرنا، شکایت کرنا۔ رَفَعَ قضیۃ علیہ یا رفع بہ قضیۃ: کے خلاف قانونی کاراجوئی کرنا، کے ساتھ عدالت میں جانا۔ رَفَعَ الاستئناف امام: عدالت سے اپیل کرنا، کی عدالت میں اپیل دائر کرنا۔ رَفَّعَ: اٹھانا، بلند کرنا، اونچا کرنا، کارنیوال (کیتھولک عیسائیوں کی ہولی) منانا۔ رَافَعَ عن: کا وکیل صفائی ہونا، (عدالت میں) کسی کی صفائی کی پیش کرنا، (عدالت میں) کسی کی وکالت کرنا۔۔۔۔ ہ الی: کو عدالت میں طلب کرنا۔ تَرَفَّعَ عن: سے بالا ہونا، یا خود کو بالاتر سمجھنا، پر بہت زیادہ مغرور ہونا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ تَرَفَّعَ بِراسہ: اپنا سر اٹھانا، اونچا کرنا۔ تَرَافَعَ اِلیٰ الحاکم: ایک دوسرے کو جج کے سامنے لیجانا، اپنا مقدمہ جج کے پاس لیجانا۔۔۔۔: (عدالت میں) جواب دعویٰ داخل کرنا، وکالت کرنا۔ اِرْتَفَعَ: اٹھنا، اونچا ہونا، بلند ہونا، اوپر جانا، چڑھنا، زیادہ بلند ہو جانا، بڑھنا، زیادہ ہونا، چڑھنا، (آواز، لہجہ دھن) کا اونچا اور واضح ہونا۔۔۔۔ عن: سے دور چلا جانا، بدل کر ہو جانا، خارج ہونا، غائب ہونا۔ اِرْتَفَعَ صوتُہُ: وقار حاصل کرنا۔ رفع: اٹھانا، بلند کرنا، اونچا کرنا، بلندی، ارتفاع (قیمتوں، درجۂ حرارت کا) چڑھنا، تعمیر، منسوخی، (بندش، پابندی کا اٹھایا جانا، علاج، چارہ کار، اخراج، ہٹانا، اٹھانا، اٹھ جانا، (ٹیکس کی) معافی، (رپورٹ وغیرہ کا) پیش کرنا، (حرف کو) رفع دینا۔ رفع الاثقال: ویٹ لفٹنگ (weight lifting)، صحت کیلئے وزن اٹھانا۔ رِفْعَۃ: بلندی، رفعت، اونچا درجہ یا حیثیت۔ صاحب الرِفْعَۃ: زمانہ گذشتہ میں مصر کے وزیر اعظم کا لقب۔ رِفْعَۃ رئیسِ الوزراء: فضیلت مآب وزیر اعظم۔ رَفِیع: اونچا، بلند، بلند مرتبہ والا، بلند مرتبہ، بلند پایہ، ممتاز، پرشوکت، پروقار، برتر، سرفراز، بلند (آواز)، باریک عمدہ، نازک، نفیس، دقیق، شائستہ، شاندار، سبک، لطیف، باریک بین، بلند تخیل، پرصنعت، فنی، فنون لطیفہ کے متعلق۔ رفیع الشان: سرفراز (زمانہ گذشتہ میں تونس کے بے خاندان کے بے افراد کا لقب)۔ صاحبُ المَقام الرفیع: ١٩٣٦ میں فؤاد اول کے قائم کردہ تمغہ (القلادۃ) کے حاملین کا لقب۔ الفنون الرفیعۃ: بمعنی الفنون الجمیلۃ: فنون لطیفہ۔ الرفیع و الوضیع: اونچے نیچے سب۔ مُرَافِع: مدعی، دعویٰ کرنے والا، نالش کرنے والا، مستغیث، دادخواہ۔ مُتَرَفِّع: مغرور، خود پسند، خود بین، متکبر، گستاخ، اپنی حیثیت پر مغرور۔ مُرْتَفِع: اٹھتا ہوا، چڑھتا ہوا، اونچا، بلند، گونجتا ہوا، بجتا ہوا۔ سِکَّۃُ الحدید المرتفعۃ: کسی شہر کی سڑکوں کے اوپر سے گذرنے والی ریلوے۔ مُرْتَفَع: بلندی، بلند جگہ، اونچائی، ارتفاع، بلند مقام، بالاخانہ، بلند سطح پہاڑی جمع مرتفعات: پہاڑیاں، اونچی جگہیں۔

رفغ: او رَفَغَ ۔ رَفَاغَۃً العیشُ: زندگی کا فراخ اور خوشگوار ہونا۔ صفت رَافِغ و رَفِیغ و اَرْفَغ۔ اَرْفَغَ لہُ المعاشَ: کی روزی میں وسعت و فراخی دینا۔ تَرَفَّغَ: آسودگی و خوشحالی سے زندگی بسر کرنا۔ الرُفْغ جمع اَرْفَاغ و رُفُوغ: زندگی کی آسودہ حالی و خوشگواری۔ کِلْسٌ رُفْغٌ: نرم چونا۔ الرَفَاغَۃ و الرفَاغِیَۃ: بمعنی الرفغ۔

٢۔ الرُفْغ جمع اَرْفُغ و رِفَاغ: وادی کی سب سے خراب مٹی والی جگہ، گوشہ، طرف، بہت مٹی والی زمین۔ (کہا جاتا ہے: جاء بمالٍ کَرفغِ التراب: وہ بہت مال لایا)۔۔۔۔ جمع اَرْفَاغ و رُفُوغ: جسم میں میل جمع ہونے کی ہر جگہ، جوار کا بھوسہ۔ اَرْفَاغُ الناس [illegible] اور رانوں کی جڑیں۔ (اس کا واحد نہیں)۔

رفق: او رَفَقَ ۔ رَفْقاً ہُ: کو نفع پہنچانا، کی مدد کرنا۔ رِفْقاً و مَرْفِقاً و مَرْفَقاً و مِرْفَقاً بہ و لہ و علیہ: کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔ رَفُقَ ۔ رِفْقاً و مَرْفِقاً و مَرْفَقاً و مِرْفَقاً بہ و لہ و علیہ: کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔۔۔۔ رَفَاقَۃً الرجلُ: رفیق و ساتھی ہونا۔ رَفِقَ ۔ رِفْقاً و مَرْفِقاً و مَرْفَقاً و مِرْفَقاً بہ و لہ و علیہ: کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔ رَافَقَ ہُ: کا ساتھی ہونا، بنا (آپ کہتے ہیں رافقہ فی السفر: وہ سفر میں اسکا ساتھی بنا)، کے ساتھ ہونا، کی معیت میں ہونا۔ اَرْفَقَ ہُ: کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، کو نفع دینا۔ تَرَفَّقَ بہ: کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا۔ تَرَافَقَ الرجلان: ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔ اِرْتَفَقَ: مدد چاہنا۔۔۔۔ القومُ: سفر میں سنگ ساتھ ہونا۔۔۔۔ بہ: سے نفع اٹھانا۔ اِسْتَرْفَقَ ہُ: سے مہربانی اور نفع چاہنا۔ الرِفق (مص): نرم برتاؤ، مہربانی کا سلوک، وہ چیز جس سے مدد لی جائے۔ الرَفَق: آسان۔ کہا جاتا ہے ھذا امرٌ رَفَقُ البغیۃ: یہ کام آسانی سے حاصل ہونے والا۔ الرِفْقَۃ و الرَفْقَۃ و الرُفْقَۃ و الرُفَاقَۃ جمع رِفَاق و رِفَق و رُفَق و اَرْفَاق: ساتھیوں کا ٹولہ۔ الرَفِیق جمع رُفَقَاء: ساتھی (اس کے واحد جمع پر اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں ھم رفیقی: وہ میرے ساتھی ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں ھو رفیقی: وہ میرا ساتھی ہے)، مہربان۔ الرافِقۃ: نرمی، مہربانی، حسن سلوک۔ المَرْفَق و المِرْفَق جمع مَرَافِق: جس چیز سے نفع اٹھایا جائے۔ المَرْفِق جمع مَرَافِق: جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی سے ہے مَرافِقُ الدار: گھر کے منافعے یعنی لوازمات خانہ جیسے کنواں، باورچی خانہ، پاخانہ۔ مَرافِقُ البلاد: اہل ملک کی نفع اندوزی کی چیزیں۔

٢۔ رَفَقَ ۔ رَفْقاً ہُ: کی کہنی پر مارنا۔۔۔۔ الناقَۃَ: اونٹنی کا بازو باندھنا۔۔۔۔ العملَ: کام کو مضبوط و مستحکم کرنا۔ رَفِقَ ۔ رَفَقاً البعیرُ: اونٹ کا پہلو سے مڑی ہوئی کہنی والا ہونا۔ صفت اَرْفَق۔ تَرَفَّقَ علیہ: کا سہارا لینا۔ تَمَرْفَقَ: کہنی پکڑنا۔ اِرْتَفَقَ: کہنی یا تکیہ پر ٹیک لگانا۔ الرِفَاق جمع رُفُق: اونٹنی کے بازو باندھنے کی رسّی۔ المَرْفَق جمع مَرَافِق (ع ا): کہنی۔ المِرْفَق جمع مَرَافِق: کہنی، تکیہ لگانے کی جگہ۔ المِرْفَقَۃ: چھوٹا تکیہ۔ المُرْتَفَق: تکیہ لگانے کی جگہ۔ اِرْتَفَقَ الاناءُ: برتن کا بھرنا۔ المُرْفِق: وہ شخص جس

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے پاس ضرورت سے زائد ہر چیز ہو (عوام کی زبان میں)۔ المُرتَفِق: بھرا ہوا۔

۴۔ الــرَفَـق: دودھ کی نالی میں خرابی۔ نــاقةٌ رَفِـقَـةٌ و رَفْـقَـاء: دودھ کی نالی میں خرابی والی اونٹنی یا جس کے تھن کے سرے میں خرابی پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے تھن سے خون نکلتا ہو۔ المُرتَفِق: ثابت، دائم۔

○ رَفَقَ ـ رِفقًا و رَفِقَ ـ رَفَقًا ب/علی/ل: پر مہربانی ہونا، سے دوستانہ ہونا، پر لطف ہونا۔ ــ ب: سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، کے ساتھ شائستہ، مہذب، خوش اخلاق ہونا۔ رَافَــقَ ہ: کا ساتھی ہونا، رفیق ہونا، کے ساتھ ہونا، کی معیت میں ہونا، سے گہرے دوستانہ تعلقات ہونا، سے مل جل کر کام کرنا، کا دوست ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کے ساتھ جانا، کا ہمرکاب یا ہمسفر ہونا، کے ہمراہ ہونا، کی معیت میں جانا۔ ـــــ ہ/ ہ: حفاظت کے لئے کے ہمراہ جانا، کا ہمراہ ہونا۔ اَرْفَــقَ ہ: کے لئے کار آمد ہونا، مفید ہونا، کی خدمت کرنا، مدد کرنا، کو فائدہ مدد یا کام دینا۔ ـــــ ہ ب: کے ساتھ کے ہمراہ جانا، کے ساتھ کچھ نتھی کرنا، شامل کرنا، ٹانکنا، ملحق کرنا، لف کرنا، ملفوف کرنا۔ تَــرَفَّقَ ب/مع: کے ساتھ شریفانہ اور دوستانہ رویہ اور مہربانی کا اظہار کرنا، سے پر لطف ہونا۔ ـــــ في: کوئی کام نرمی سے کرنا، میں نرمی سے آگے بڑھنا۔ تَرَفَّقَ في سيره: آہستہ چلنا، چہل قدمی کرنا، ٹہلنا، سیر کرنا، ٹہلتے پھرنا، مٹرگشت کرنا۔ تَـرَافَقَ: اکٹھے سفر کرنا۔ اِرْتَفَقَ ب: سے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا یا حاصل کرنا، کو برتنا، استعمال کرنا، استعمال میں لانا، کا مصرف ڈھونڈنا۔ ـــــ ہ: پر اپنی کہنیاں نکانا، پر اپنے بازو سے ٹیک لگانا۔ رِفْق: مہربانی، دوستی، دوستانہ سلوک، نرمی، شائستگی، شرافت۔ جـمـعية الـرِفق بـالـحيوان: جانوروں پر بے رحمی روکنے کی انجمن۔ رِفْـقَة و رُفْـقَة جـمـع رفـاق و رِفَـق و رُفَـق و اَرْفاق: گروہ، ٹولہ، دستہ، لوگوں کی انجمن، جمعیت، جماعت، ساتھ، معیت۔ بـرفـقة: کی معیت میں۔ رَفِـيـق جمع رُفَقَاء و رِفَاق: ساتھی، مصاحب، حفاظتی دستہ، دوست یار، بھیا، کامریڈ ساجھی، شریک کار، ہم صحبت، کاروبار کا ساتھی، رفیق۔ ـــــ ب: پر مہربان۔ ـــــ: شریف، نرم، نازک، ملائم۔ رفـيـق المدرسة: ہم مدرسہ، ہم سکول، ہم جماعت، ہم کلاس۔ رَفِـيـقَة جـمـع رفيقات: خاتون ساتھی، گرل فرینڈ، محبوبہ، معشوقہ، داشتہ۔ مِــرْفَـق: کہنی۔ مَرْفِق: کہنی جمع مَـرَافِق: ذاتی سہولت و آرام کے باعث کی کوئی چیز، کار آمد شے جیسے غسل خانہ پاخانہ وغیرہ، حصول تہذیب و تمدن، تہذیب و تمدن سکھانے کا ادارہ۔ جمع مَــرَافِـق: تہذیب و تمدن کی تحصیلات، کار آمد اشیاء، رفاہ عامہ کے کام، شہری یا عوامی خدمات، تنصیبات، سہولیات۔ الــقيــام عــلــی مــرافِقِهــم: لوگوں کی بہبود کے لئے تشویش۔ مَرافِقُ الـحياة: کار آمد اشیاء، ذاتی سہولت و آرام کے باعث کی چیز۔ الـمرافق العامة: رفاہ عامہ کے کام، شہری (یا عوامی) خدمات۔ مَرافِقُ التكرير: تیل صاف کرنے کی سہولتیں۔ مُــرَافَـقَة: ہمرکابی، رفاقت، مصاحبت، ساتھ، معیت، صحبت، ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اِرْتفاق: استعمال، استفادہ، مفید ہونا، افادیت، فائدہ مندی، سود مندی، حق آسائش، کسی دوسرے کی زمین پر راستہ کا حق، کسی دوسری عمارت کے ملحقہ مکانات سے راستہ بنانے کا حق۔ مُــرَافِــق جـمـع مــرَافِـقون: ساتھی، حاشیہ بردار، مصاحب، حفاظت کے لئے ساتھ جانے والا، سر ملانے والا، سازندہ، نائب، مددگار۔ مُـرْفَـق بـه: منسلکہ، لفافہ میں بند بھیجا جانے والا خط وغیرہ۔ جمع مُرْفقَات: ملفوف کاغذات وغیرہ۔ مُــرْتَـفَـق: وہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے، سہارا، پاخانہ، بیت الخلاء۔

رفل: ا۔ رَفَلَ ـ رَفْلاً و رُفُـولاً و رَفَـلانـاً: دامن گھسیٹتے ہوئے تکبر سے چلنا، ہاتھ ہلاتے ہوئے چلنا۔ صفت: رفل مؤنث رفِلَة: ۔ رَفْلاً و رَفِلَ ـ رَفَلاً: بدلباس اور کام میں بے سلیقہ ہونا۔ صفت: اَرْفَــل و رَفِــل مــؤنـث رَفْلاء۔ رَفَّلَ الإزارَ: آزار لٹکانا اور ناز سے چلنا۔ ـ ہُ: کی تعظیم کرنا، کو سردار بنانا، کو مالک بنانا، کو ذلیل کرنا۔ اَرْفَلَ: دامن گھسیٹنا، ناز سے چلنا۔ ـــــ ثيَابَهُ: کپڑوں کو لٹکانا۔ کہا جاتا ہے: اَرْفَـل رِفْلَهُ: اس نے اپنا دامن لٹکایا۔ تـرَفَّلَ: تکبر سے ناز کی چال چلنا۔ تـرَفَّـلَ عليه: کا سردار و رئیس ہونا۔ الـرِفْل: دامن۔ الــرِفَـل: لمبے دامن والا، لمبی دم والا گھوڑا، بہت گوشت والا، کشادہ کپڑا۔ عَيْــش رِفَل: آسودہ زندگی۔ الـرَفَّال من الشعر: لمبے بال۔ المِرْفَال مـن الـرجـل و الـنسـاء: دامن گھسیٹتے ہوئے ناز سے چلنے والا مرد یا عورت۔

۲۔ الـرَفَـل مـن الـبِـئـر: کنواں جس کی گہرائی میں تھوڑا سا پانی ہو۔

○ رَفَــلَ ـ رَفْلاً: لباس کو پیچھے پیچھے گھسیٹنا، اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، اینٹھ کر چلنا۔ رِفْــل: لٹکتا ہوا پوشاک کا دامن۔

رفه: ا۔ رَفَهَ ـ رَفْهًـا و رِهًـا و رُفُوهًا: خوشگوار و آسودہ زندگی والا ہونا۔ صفت: رَافِــه و رَفْهَـان۔ ـــــ ت الإبلُ: ہر روز جب چاہیں اونٹوں کا پانی پر آنا۔ صفت: رافِهَة جـمـع رَوَافِـه۔ رَفُهَ ـ رَفَـاهًا و رَفَاهِيَةً و رَفَــاهَةً الـعيــش: زندگی کا خوشگوار اور آسودہ ہونا۔ صفت: رَافِــه و رَفِيــه۔ رَفَّــهَ الرجلَ: کو فراخ و آسودہ حال بنانا۔ ـــــ الـراعی الإبلَ: چرواہے کا اونٹوں کو ان کی حسب مرضی پانی پر آنے دینا۔ ـ عنه: کے لئے آسائش اور آرام کا سرچشمہ ہونا، کے لئے آسانیاں پیدا کرنا، کو آرام سے زندگی بسر کرنے دینا، کی پریشانیاں کم کرنا، کے لئے تفریح فراہم کرنا، کو خوش کرنا۔ رُفِّــهَ عــنــه: کی تنگی اور تھکاوٹ کا دور ہونا۔ اَرْفَـهَ: آرام لینا۔ ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا۔ ـــــ الـرجلَ: کو فراخ و آسودہ حال بنانا۔ ـــــ الـراعی الإبـلَ: چرواہے کا اونٹوں کو ان کی حسب مرضی پانی پر آنے دینا۔ ـــ ت الإبلُ: اونٹوں کا پانی کے نزدیک رہنا۔ ـــــ القومُ: قوم کے مویشیوں کا حسب مرضی روزانہ پانی پر آنا۔ تَـرَفَّـهَ و اِسْتَرْفَهَ: آرام لینا، تن آسانی اور آرام کی زندگی بسر کرنا۔ هـو رَافِهٌ به: وہ اس پر مہربان ہے۔ الرَفَهَة: مہربانی، رحم۔ الرُفَهْنِيَة: آرام دہ اور عیش و عشرت کی زندگی۔

۲۔ الرِفُه: چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت۔

○ رَفُـهَ ـ رَفَـاهًـا و رَفَـاهَةً و رَفَـاهِيَةً: (زندگی کا) پر آسائش، خوشگوار اور عیش و عشرت والی ہونا۔ رَفَّــهَ ہ: زندگی کو خوشگوار اور پر آسائش بنانا۔ ـ ہ: کو خوشگوار اور پر تعیش زندگی مہیا کرنا۔ ـــ عن/علی: کے لئے تن آسانی اور آسائش کا سرچشمہ ہونا، کو آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے دینا، کا دل بہلانا، کو تفریح بہم پہنچانا۔ ـــــ عن ہ: کے لئے کسی چیز کی تکلیف کم کرنا، کو نرم کرنا۔ ـ عن: کا جی خوش کرنا، کی ہمت بلند کرنا، روح کو تسکین پہنچانا۔ رَفَّـهَ عن نفسه: ستانا۔ ـ ہ: کام سے تفریح پانا۔ رَفَّـهَ عـلـی نفسـه: تفریح پانا۔ رِفْــهٌ و رِفـاه: بہبود، بہبودی، خوشحالی، ذاتی آرام و آسائش، عیش و عشرت، زندگی کی آسائشیں، اچھی زندگی بسر کرنا۔ رَفَــاهَة و رَفَــاهِيَة: آرام دہ عیش و عشرت کی زندگی، عیش و عشرت، آسائش، آسودگی اطمینان، مکمل تفریح و آسائش۔ تَـرْفِيـه: آسائش اور عیش و عشرت کی تخلیق، عیش و عشرت کا خوگر کرنا، آسائش اور عیش و عشرت کی بہم رسانی، تفریح، (دماغی) تفریح۔ تَـرْفِيــهُ العيــش: آرام دہ زندگی، اچھی یا اجلی زندگی۔ قسم التَرْفِيه: تفریح کا شعبہ۔

رفـا: ا۔ رَفَـا ـ رَفْوًا الثوبَ: کپڑے کو درست کرنا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کپڑے کی مرمت کرنا، کپڑے کو رفو کرنا۔ صفت:
رَافٍ جمع رُفَاۃٌ صفت مفعولی: مَرفُوٌّ (رفو کیا
ہوا کپڑا) ـــ ہُ: کے خوف کو فرو کرنا، کا فاقہ دور کرنا۔
رَفَّی تَرفِیَۃَ العریسَ: دولہا کو دعا دینا اور بالرفاء وا
لبنین کہنا جس کا معنی ہے (اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں
ملاپ رکھے اور اولاد عطا فرمائے)۔ رَافَی رِفَاءً و
مُرافاۃً الرجلَ: کی موافقت کرنا۔ ارْفَی الیه: کی
پناہ میں آنا، سے پناہ لینا۔ تَرافَی القومُ علی
الامر: کسی معاملہ پر باہم موافقت کرنا۔ الرِفَاء:
اتفاق و اتحاد۔
۲۔ الأَرْفَی مؤنث رَفْوَاء جمع رُفْو: لمبے اور ڈھیلے
کانوں والا۔ الرَافِیۃ (ن): ایک قسم کا پودا۔ جس کی
بعض قسموں کے پتوں سے مضبوط ریشے نکلتے ہیں۔
ن رَفا، رَفْوًا ہ: کو رفو کرنا، کی اصلاح کرنا۔

رق: ۱۔رَقَّ ـ رِقَّۃً: پتلا ہونا۔ کہا جاتا ہے: رَقَّتْ عظامُہُ:
وہ بوڑھا اور سن رسیدہ ہو گیا۔ رَقَّقَ ہُ: کو پتلا کرنا۔ ـــ
اللفظَ: لفظ نرمی سے نکالنا۔ ـــ الکلامَ: پاکیزہ گفتگو
کرنا۔ ـــ مَشْیَہُ: نرم رفتار سے چلنا۔ ارَقَّ الشیءَ:
کو پتلا کرنا۔ ـــ العنبُ: انگور کا باریک چھلکے والا اور
زیادہ رس والا ہونا۔ تَرَقَّقَ الشیءُ: پتلا ہونا۔
اِسْتَرَقَّ الشیءُ: پتلا ہونا۔ ـــ اللیلُ: رات کا اکثر
حصہ گذر جانا۔ ـــ الماءُ: پانی کا خشک ہونے کے
قریب ہونا۔ الرَّقُّ: نرم کشادہ زمین، سمندر یا وادی
میں پتلا پانی۔ الرَّق جمع رُقُوق: پتلا، لکھنے کی پتلی
کھال، سفید کاغذ کا تختہ۔ الرِقّ: پتلی چیز، پتلی کھال
جس پر لکھا جاتا ہے، درخت کے پتے یا جانور کے لئے
آسانی سے حاصل ہونے والی شاخیں، کاغذ کا سفید
تختہ، کشادہ و نرم زمین۔ الرَقَق: پتلا پن، کمزوری،
کھانے کا پتلا پن، نرم اور کشادہ زمین۔ الرَقَّۃ جمع
رِقَاق: پانی سے بھر کر خشک ہو جانے والی زمین۔
الرِقَّۃ: باریکی۔ رِقَّۃُ الجانب: کمزوری سے کنایہ
ہے۔ ـــ العیش: زندگی کی آسودگی۔ الرَقِیق جمع
اَرِقَّاء مؤنث رَقِیقَۃ جمع رِقَاق: پتلا (کہا جاتا
ہے: هو رقیق المعانی: وہ نفیس مطلب والا ہے۔
عیشٌ رقیقُ الحواشی: خوش حال اور آسودہ زندگی۔
لفظ رقیقٌ: آسان و شیریں لفظ۔ رقیق الانف: ناک
کا نرم حصہ۔ الرَقِیقان: ناک کے نتھنوں کے کنارے۔
الرُقَاق: پتلا، نرم مٹی والی ہموار کشادہ زمین یا وہ زمین
جس کا پانی خشک ہو گیا ہو)۔ ـــ واحد الرُقَاقَۃ: پتلی
پھیلی ہوئی روٹی۔ الرَقَاق: نرم ہموار مٹی والی زمین یا
وہ زمین جس کا پانی خشک ہو گیا ہو، صحراء۔ مَـــرَاق
البطن: پیٹ کا وہ حصہ جو پتلا اور نرم ہو۔ المُرَقَّق:
پتلی اور چوڑی روٹی۔ المِرقاق: بیلن۔ المُسْتَرَق:
پتلی چیز۔

۲۔رَقَّ ـ رِقَّۃً له: پر رحم کرنا، ترس کھانا۔ اَرَقَّ الواعظُ
قلبَہُ: واعظ کا کسی کے دل کو نرم کر دینا۔ تَرَقَّقَ له: پر
ترس کھانا، رحم کھانا۔ الرِقَّۃ: رحمت۔
۳۔رَقَّ ـ رِقَّۃً وجهُهُ: شرم و حیا کرنا، الرِقَّۃ: شرم، حیاء۔
۴۔رَقَّ ـ رِقَّۃَ الرجلُ: بدحال و کنگال ہونا۔ اَرَقَّ الرجلُ:
کم مال والا ہونا، کنگال ہونا۔ الرَقِیق: کہا جاتا ہے:
رجلٌ رقیقُ الحال: تھوڑے مال والا مرد۔
۵۔رَقَّ ـ رِقًّا العبدُ: بندے کا غلام ہونا یا رہنا۔ اَرَقَّ
العبدَ: غلام کا مالک ہونا۔ اِسْتَرَقَّ العبدَ: غلام کا
مالک ہونا۔ الرِقّ (مص): غلامی۔ الرَقِیق: غلام
(واحد و جمع دونوں کے لئے آتا ہے) کہا جاتا ہے:
عبدٌ رقیقٌ و عبیدٌ رقیقٌ: ایک غلام، بہت سے
غلام، کبھی اَرِقَّاء جمع بھی استعمال کی جاتی ہے۔ عورت
کو رَقِیق اور رقیقۃ کہا جاتا ہے۔
۶۔ رَقَّقَ مابین القوم: قوم کے درمیان فساد ڈالنا۔
۷۔ الرَّق جمع رُقُوق (ح): مگر مچھ سے مشابہ ایک آبی
جانور۔ (ح): بڑا یا نر کچھوا۔ الرِقَّۃ: شہر۔ الرَقَّتان:
دو شہر اور یہ دو شہر الرقۃ و الرافقۃ ہیں۔
۸۔ رَقْرَقَ الماءَ: پانی چھڑکنا۔ ـــ العینَ: آنکھ سے آنسو
بہانا۔ ـــ الخمرَ: شراب میں پانی ملانا۔ تَرَقْرَقَ
الماءُ: پانی کا آنا جانا، ہلکے ہلکے بہنا۔ ـــ ت العینُ:
آنکھ کا آنسو بہانا۔ ـــ الدمعُ: آنسو کا آنکھوں میں
ڈبڈبانا۔ ـــ ت الشمسُ: آفتاب کا گھومتا ہوا دکھائی
دینا۔ الرَقْرَاق: چمکنے والا۔ ـــ من الدمع: آنکھ میں
ڈبڈبانے والا آنسو۔ ـــ من السحاب: آنے جانے
والا بادل۔ الرُقَارِق: سمندر یا وادی کا رقیق پانی، پتلا
کپڑا، باریک کپڑا، آبدار تلوار۔
۹۔ رَقْرَقَ الطیبَ فی الثوب: کپڑے میں خوشبو لگانا۔

ن رَقَّ ـ رِقَّۃً: پتلا ہونا یا ہو جانا، باریک ہونا یا ہو جانا، نرم و
ملائم ہونا یا ہو جانا، چھریرا ہونا یا ہو جانا، نازک ہونا یا ہو
جانا، نفیس و نازک مزاج ہونا یا ہو جانا، خالص ہونا،
صاف ہونا، پاک ہونا، شفاف و نتھرا ہوا ہونا (پانی
کا)۔ ـ ل: کے لئے نرم ہونا، کے لئے ہمدردی رکھنا،
رحمدل ہونا، پر ترس کھانا۔ رَقَّ له قلبُهُ: کے کام آنا، یا
کی مدد کرنا۔ رَقَّقَ ہ: کو پتلا کرنا یا بنانا، کو عمدہ نرم یا ملائم
بنانا، نرم کرنا، خالص و صاف بنانا۔ ـــ ہ: اپنی تقریر کو
شائستہ، ہموار اور خوبصورت بنانا۔ ـــ ہ: (دھات)
[illegible]
بنانا، پتلا بنانا یا کرنا، عمدہ اور نرم بنانا، صاف و شفاف
بنانا۔ ـــ ہ: دل کو نرم کرنا۔ تَرَقَّقَ ل: کے لئے نرم
ہونا، رحمدل ہونا، کے لئے ہمدردی رکھنا، پر ترس کھانا۔
اِسْتَرَقَّ: پتلا ہونا، باریک ہونا، عمدہ ہونا، نرم ہونا نفیس
و ملائم ہونا۔ ـــ ہ: کو نرم کرنا۔ ـــ ہ: کو غلام بنانا۔ رَقّ
جمع رُقُوق: سمندری کچھوا، بحری سنگ پشت۔
رِقّ: غلامی۔ رَقّ و رِقّ: جھلی، جھلی نما کاغذ۔ رِق:
طنبورہ، دف۔ رِقۃ: پتلا پن، چھریرا پن، کمی، ناکافی
ہونا، تھوڑا ہونا، باریکی، عمدگی، صفائی، کھرا پن،
نفاست، نزاکت، نرمی، ملائمت، شرافت، شائستگی،
بردباری، حلم، ہلکا پن، دل آویزی، دلکشی، مہربانی،
رحمت، دوستی، دوستانہ سلوک۔ ـــ رِقۃ الحاشیۃ:
دوستی، دوستانہ سلوک، دل آویزی، دلکشی، شائستگی۔
رقۃ الشعور: احساس، احساس کی نزاکت، سلیقہ،
عقل، ہوشیاری، موقع شناسی۔ رقۃ الطبع: مہربانی،
شرافت، شائستگی، نرم مزاجی، دوستی، دوستانہ سلوک۔
رقۃ المزاج: شرافت، شائستگی، نرم طبع۔ رُقَاق:
روٹی، چپاتی۔ رقیق جمع اَرِقَّاء و رِقَاق: غلام
(واحد جمع) روٹی، چپاتی، پتلا، باریک، دبلا پتلا،
چھریرا، تھوڑا، ناکافی، عمدہ، نازک، اچھا، خوب، نرم
ملائم، نرم و نازک، شریف، شائستہ، زود رنج، نازک
دماغ، موقع شناس، ہوشیار، زیرک، ہوشمند،
دور اندیش۔ تجارۃ الرقیق: غلاموں کی تجارت۔
رقیق الحال: غریب، حاجتمند۔ رقیق الحاشیۃ
(الحواشی): مہربان، دوستی کا برتاؤ رکھنے والا،
مشفق، خلیق، خوش خلق، مہذب، باادب، بامروت،
ملنسار، دلاویز، دلکش، قابل محبت۔ رقیق الشعور:
ذی حس، حساس، زود رنج، زود اثر، فوراً اثر قبول کرنے
والا۔ رقیق الطبع: مہربان، شریف، شائستہ، سلیم
الطبع، شیریں طبع، دوستی کا برتاؤ رکھنے والا۔ رقیق
المزاج: شریف دل۔ رَقِیقَۃ: ورق، پرت، چھلکا،
تہہ، پتری، پاپڑ، پتلا چوڑا چھلکا۔ اَرَقّ: زیادہ پتلا،
زیادہ باریک، زیادہ دبلا پتلا، زیادہ کمزور، زیادہ
نازک۔ مِرقاق: بیلن۔ مُرَقُوق: پتلی، باریک پاپڑ
نما پیسٹری۔

رقأ: ۱۔رَقَأَ ـ رَقْأً و رُقُوءًا الدمعُ او الدمُ: آنسو یا
خون کا خشک ہونا، نکلنا بند ہونا، رکنا۔ رَقَأَ فی الدرجۃ:
سیڑھی پر چڑھنا۔ اَرْقَأَ الدمَ او الدمعَ: خون یا آنسو
کو خشک کرنا، روکنا۔ کہا جاتا ہے: لا اَرْقَأَ اللّٰهُ دمعتَہُ:
اللہ تعالیٰ اس کا ایک آنسو بھی نہ نکالے۔ الرَقُوء:
خون بند کرنے والی چیز، خون روکنے والی چیز۔ المَرْقَأۃ۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

المِرْقَاةُ: سیڑھی، زینہ۔

۲۔رَقَأَ۔رَقْأً بینھم: کے درمیان صلح کرانا، فساد ڈالنا۔کہا جاتا ہے: ارقَـأ علـى ظَلْعِكَ: اپنی جان پر رحم کرو طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔الـرَّقُو: لوگوں میں صلح کرانے والا۔

ﺽ رَقَأَ۔رَقْأً و رُقُوءًا: آنسوؤں کا بہنا بند ہونا۔

رقب: ا۔رَقَبَ۔رُقُوبًا و رَقُوبًا و رَقَابَةً و رِقْبَانًا و رِقْبَةً و رَقْبَةً ہٗ: کی نگرانی کرنا، کا انتظار کرنا، کوڑرانا۔ ـ النجمَ: ستاروں کی دیکھ بھال کرنا، ستاروں کا مشاہدہ کرنا۔رَاقَبَ ہٗ: کی نگہبانی کرنا۔اَرْقَبَ ہُ الدارَ: گھر کسی کے لئے رُقبی کرنا (دیکھو رقبی) ـــ ہُ الرُّقْبَى: کو مکان وغیرہ تازیست دے دینا۔تَـرَقَّـبَ ہ: کا انتظار کرنا۔تَـرَاقَبَا: ایک دوسرے کی نگرانی نگہبانی کرنا۔اِرْتَقَبَ ہٗ: کا انتظار کرنا ـــ المکانَ: کسی جگہ پر چڑھنا۔الرُّقْبَۃ: چیتے کے شکار کے لئے گڑھا۔ الـرِّقْبَۃ: نگہبانی، احتیاط، تحفظ، بچاؤ۔کہا جاتا ہے: وَرِثَ مالاً عن رِقْبَۃٍ: اس نے مال اپنے آباؤ اجداد سے ورثہ میں نہیں پایا بلکہ دور کے رشتہ دار سے پایا۔ ورث مجداً عن رقبۃ: اس کے آباؤ اجداد مجد و بزرگی کے مالک نہ تھے، کہ ان سے مجد و بزرگی پائی ہو۔ الـرُّقْبَى: کوئی شخص دوسرے کو گھر وغیرہ اس شرط پر دے کہ اگر میں تجھ سے پہلے مرگیا تو گھر وغیرہ تیرا ہوگا اور اگر تو مجھ سے پہلے مرگیا تو گھر مجھے واپس مل جائے گا۔الـرَّقِيْبُ جمع رُقَباء: نگہبان (کہا جاتا ہے: ھو رقیبُ نفسہ: وہ خود ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والا ہے اس لئے دوسروں کو ملامت کرنے کا موقع نہیں دیتا) محافظ، انتظار کرنے والا، جوئے کے تیسرے تیر کا نام۔(فلک): ایک ستارے کا نام۔(ا ع): سارجنٹ، پسماندگان، چچازاد بھائی ـــ جمع رُقُب و رقیبات (ح): ایک نہایت زہریلا سانپ۔رقیب الجیش: دیدبان۔رقیبُ الشمسِ (ص ن): ایک قسم کا پودا۔الرَّقُوب: میراث کے لئے اپنے شوہر کی موت کا انتظار کرنے والی عورت، وہ عورت جس کا بچہ مرگیا ہو یا جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں ـــ من الشیوخ و الارامل: نہ کماسکنے والا بوڑھا یا بیوہ، بوڑھا یا بیوہ جس کی کمائی (آمدنی) نہ ہو۔اُمُّ الـرَّقُـوب: مصیبت۔الـمَرْقَب و المَرْقَبَۃ جمع مَرَاقِب: نگرانی کرنے کی اونچی جگہ، نگرانی کا برج، فوجی چوکی۔ المِرْقَب: ٹیلیسکوپ، دوربین، ستاروں اور اجرام فلکیہ کی دیکھ بھال کا آلہ۔الـرَّقَـابَۃ: مالک کی غیر موجودگی میں مال کی نگرانی کرنے والا۔

۲۔رَقَبَ۔رُقُوبًا و رَقُوبًا و رَقَابَةً و رِقْبَانًا و رِقْبَةً و رَقْبَةً ہٗ: کی گردن میں رسی ڈالنا۔الرَّقَب: گردن کی موٹائی۔الرَّقَبَۃ جمع رِقَاب و رَقَبَات و رَقَب و اَرْقُـب: گردن، گدی (مو) بربط کا بالائی حصہ، غلام (جزء اشرف بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔) کہا جاتا ہے: ھم غلاظُ الرقاب: وہ موٹی گردنوں والے ہیں۔ مراد وہ غیر مہذب و بدتہذیب ہیں۔رَقَبَۃُ الطریق فی اصطلاح اھل الشرع: وہ زمین جس میں سے راستہ گزرتا ہو۔کہا جاتا ہے: مَلَكَ رقبۃ الطریقِ: وہ راستہ والی زمین کا مالک ہے ـــ الماء عند اھل الشرع: پانی بہنے کا نالہ۔کہا جاتا ہے: مَلَكَ رقبۃ الماء: وہ پانی کی گزرگاہ اور بہنے کی جگہ کا مالک ہے۔ الاَرْقَب: مؤنث رَقْباء و الرقبان و الرَّقَبَانِيّ: موٹی گردن والا۔

۳۔رَاقَبَ اللّٰہَ فی امرہ: اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔الرِّقْبَۃ: خوف۔

ﺽ رَقَبَ۔رَقُوبًا و رَقَابَةً ہ: کا مشاہدہ کرنا، توجہ سے کسی چیز کو نظر میں رکھنا، دیکھنا، پر غور کرنا، دھیان میں لانا، کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، کو جانچنا، تابع رکھنا، اختیار یا قابو میں لانا، کا انتظار کرنا، کا منتظر رہنا، کی راہ دیکھنا ـــ رُقُوبًا ہ: کی حفاظت کرنا، کو بچائے رکھنا، کی نگہبانی کرنا، کو مدنظر رکھنا، پیش نظر رکھنا، کی طرف توجہ کرنا، کا پاس کرنا، لحاظ کرنا، پر کان دھرنا، پر عمل کرنا ـــ ہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ـــ: چوکنا ہونا، چوکس ہونا، ہوشیار ہونا، محتاط ہونا، احتیاط کرنا۔ لایرقب فیہ اِلًّا وَلا ذِمَّۃً: کے ساتھ سختی یا سنگدلی سے پیش آنا یا سلوک کرنا یا برتاؤ کرنا۔راقَبَ ہ/ ہ: کا مشاہدہ کرنا، کو نظر میں رکھنا، دیکھنا، توجہ سے یا بغور دیکھنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، پر کڑی نظر رکھنا ـــ ہ: کو دور سے دیکھ کر اندازہ لگانا، کا پتہ لگانا، کو دریافت کرنا (غلطی جرم وغیرہ) پکڑنا ـــ ہ: (ٹریفک، پریس، کسی کے کام) پر کنٹرول کرنا (کسی کام) کی نگرانی کرنا، کسی کے لین دین، تعلقات) پر نظر رکھنا ـــ ہ: (اللہ تعالیٰ) سے ڈرنا۔راقَبَ اللّٰہ فیہ: کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کے ساتھ اللہ کے خوف کی وجہ سے اچھا سلوک کرنا۔تَـرَقَّـبَ ہ: کی توقع کرنا، امید کرنا، (متوقع چیز) کا اندازہ کرنا، کی پیش بینی کرنا، کی راہ دیکھنا ـــ ہ/ہ: کا انتظار کرنا، کی تلاش کرنا، کا منتظر ہونا ـــ ہ: کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کی طرف دیکھنا، کی گھات میں بیٹھنا۔اِرْتَقَبَ ہ: کی توقع کرنا، امید کرنا، (متوقع چیز) کا اندازہ کرنا، کی پیش بندی کرنا، کی پیش بینی کرنا، کا پہلے سے اندازہ کرنا۔رِقْبَۃ: مشاہدہ، کنٹرول، توجہ، چوکسی، خبرداری، ہوشیاری، احتیاط، بیدار مغزی۔رَقَبَۃ جمع رَقَبَات و رِقَاب: گردن ـــ جمع رقاب: غلام، (اسلامی قانونی میں) شخص۔رقبۃ جسر: سرحدی دریا کے پار دشمن کے علاقہ میں بڑھا ہوا مورچہ (bridge head)۔صُلْبُ الرَّقَبَۃ: ضدی، ہٹیلا، سرکش، ثابت قدم، خودرائے، متمرد، کج بحث، غوغائی شور و غل مچانے والا، فسادی، جھگڑالو۔ غلیظُ الرقبۃ: بمعنی صُلْبُ الرقبۃ۔ ھذا فی رِقابِھم: اس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ اخذ بَعْضُھم برقاب بعضٍ: ایک دوسرے کے بعد تواتر سے آنا۔رُقُوب: توقع، پیش بینی، پیش بندی۔ رَقِیب جمع رُقَباء: ہوشیار، چوکس، چوکنا، محافظ، سرپرست، والی، نگہبان، نگران، رکھوالا، دربان، پاسبان، منتظم، مہتمم، داروغہ، سنتری، چوکیدار، دشمن کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے والا، اہل نظر، مشاہد، مشاہدہ کرنیوالا، ناظر، خطرہ وغیرہ کے مقابلہ کے لئے تیار، سپاہیوں، اوورسیئر، سپروائزر، انسپکٹر، کنٹرولر، کنٹرول آفیسر، ڈاک سنسر کرنے والا، سارجنٹ۔رقیب اوّل: شاف سارجنٹ۔رُقْبَی: عطیہ اس شرط کے ساتھ کہ یہ اس شخص کی وفات کے بعد جسے دیا گیا ہے عطیہ دینے والے کو واپس ہو جائے گا یا عطیہ دینے والے کی وفات پر اس شخص کی ملکیت ہو جائے گا جسے دیا گیا ہے۔ رَقَابَۃ: نگرانی، کنٹرول، (پریس کی) سنسرشپ۔ رَقُوبَۃ و رَاقُوبَۃ: اندوختہ۔مَرْقَب و مَرْقَبَۃ: اونچی جگہ کڑی نگاہ رکھنے کی جگہ Observation post۔اوپی۔کڑی نگاہ رکھنے کی جگہ، نگہبانی کا برج، رصدگاہ۔مِرْقَب: ٹیلی سکوپ Telescope۔ دوربین۔مُراقَبۃ: مشاہدہ، کڑی نظر رکھنا، نگرانی، معائنہ، کنٹرول (پریس کی) سنسرشپ، (ڈاک کی) سنسرشپ، معائنہ کا علاقہ، حلقہ۔تَرَقُّب: توقع، پیش بینی، پیش بندی۔اِرْتِقَاب: توقع، پیش بینی، پیش بندی۔مُرَاقِب جمع مراقبون: مشاہدہ کرنے والا، مبصر، اوورسیئر، سپروائزر، انسپکٹر، کنٹرولر، کنٹرول آفیسر، سنسر کرنے والا، سارجنٹ میجر، کوارٹر ماسٹر سارجنٹ۔مُراقِبُ تعلیم: ماسٹر سارجنٹ۔ مراقب تعیین: کوارٹر ماسٹر سارجنٹ۔مراقب مدنی: مقامی اہلکار۔مراقب الخطوط: نائب ریفری، حدوداد (lines man)۔

رقح: رَقَّحَ مالَہٗ: مال کی اصلاح کرنا، انتظام کرنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تَرَقَّحَ لِعِيَالِهِ: اپنے عیال کے لئے کمانا۔اِرْتَقَحَ: زیادہ ہونا۔الرَّاقِحَة: کہا جاتا ہے:هو راقِحةُ اهلِهِ: وہ اہل وعیال کے لئے کمانے والا ہے۔الرِّقَاحة: کمائی، تجارت۔الرَّقَّاحِيّ: تاجر، سوداگر۔

رقد: ۱۔رَقَدَ ـُ رَقْدًا و رُقُودًا و رُقَادًا: سونا صفت: رَاقِد جمع رُقُودٍ و رُقَّد۔ ـــ الحرُّ: گرمی کا گھٹنا ـــ ت السوقُ: بازار کا سرد پڑنا ـــ عن الامر: کام سے غافل ہونا ـــ عن ضيفه: مہمان کی خبر گیری نہ کرنا۔اَرْقَدَهُ: کو سلانا ـــ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔تَرَاقَدَ: اپنے آپ کو سوتا ظاہر کرنا۔اِسْتَرْقَدَ: پر نیند کا غلبہ ہونا۔الرَّقْدَة: نیند۔ کہا جاتا ہے:اصابتنا رَقْدَةٌ من الحرّ: ہم کو تقریباً دس روز کی گرمی پہنچی۔الرُّقَدَة و اليَرْقُود: بہت سونے والا۔الرَّقُود: ہمیشہ سونے والا۔کہا جاتا ہے: إمراأة رقودُ الضُّحَى: چاشت تک سونے والی عورت یعنی خوشحال و آسودہ حال عورت۔المُرْقِد (طب): افیون کی طرح کی ایک سلا دینے والی دواء، خواب آور دواء، صاف کھلا راستہ۔المَرْقَد جمع مَرَاقِد: خواب گاہ۔تَرْقِيدُ البَيْضِ: سینے کے لئے مرغی کے نیچے انڈے رکھنا۔الرَّاقُود جمع رَوَاقِيد: بڑا مٹکا (فارسی لفظ)۔

۲۔تَرَاقَدَ القومُ على فلان: قوم کا کسی کے خلاف مدد دینا۔اِرْقَدَّ ارقِدادًا: جلدی کرنا۔الرِّقَدانُ: بکری وغیرہ کے بچہ کی کلیل۔التَّرْقِيد: ایک قسم کی چال۔

☾ رَقَدَ ـُ رَقْدًا و رُقُودًا و رُقَادًا: سونا، سویا ہوا ہونا، آرام کے لئے لیٹنا، لیٹنا، آرام کرنا، کم ہونا، مدھم پڑنا، اتر جانا، بیٹھ جانا، دب جانا، فرو ہونا (طوفان وغیرہ) کا زور کم ہونا، پرسکون ہونا، نڈھال ہونا، (بازار کا) سرد ہونا، ٹھنڈا پڑنا۔رَقَدَ على البيض: (مرغی کا) انڈوں پر بیٹھنا۔رَقَّدَه: کو سلانا، لٹانا، کو بستر پر لٹانا۔اَرْقَدَه: کو سلانا، بچہ کو بستر پر لٹانا۔رَقْدَة: نیند، لیٹنے کا انداز، لیٹنے کی وضع، حالت۔رُقَاد: نیند، لیٹا ہوا ہونا، لیٹنے کی وضع۔رُقُود: نیند، لیٹا ہوا ہونا، لیٹنے کی وضع، سوئے ہوئے (جمع) رَاقُود جمع رَوَاقِيد: بڑا جگ۔مَرْقَد جمع مَرَاقِد: بستر، کوچ، آرام کی جگہ، مقبرہ، روضہ، درگاہ۔تَرْقِيد: انڈے سینا۔تَرْقِيدَة: داب، درخت کی شاخ جو مٹی میں دبا دی گئی ہو۔رَاقِد جمع رُقَّد و رُقُود: سونے والا، سویا ہوا، لیٹا ہوا، تکیہ لگا کر بیٹھا یا لیٹا ہوا، آرام کرنے والا، خاموش، پرسکون، سرد (بازار)۔مُرَقِّد: خواب آور لوری یا تھپک کر سلانے والا۔جمع مُرَقِّدات: خواب آور دوائیں۔

رقز: رَقَزَ ـِ رَقْزًا: ناچنا ـــ العرقُ: رگ کا اچھلنا۔الرَّقَّاز: ناچنے والا۔

رقش: ۱۔رَقَشَ ـُ رَقْشًا هُ: پر نقش کرنا ـــ الكلامَ: کو لکھنا، سجانا۔رَقَّشَ الكلام: کو سجانا، لکھنا، گھڑنا ـــ الرجلُ: چغلی کھانا ـــ الرجلَ: پر عتاب کرنا۔تَرَقَّشَ: مزین ہونا، آراستہ ہونا، سجنا۔اِرْتَقَشَ: اپنا حسن اور اپنی زینت دکھانا۔

۲۔رَقَّشَ الصحيفة: کی سطریں کرنا۔اِرْتَقَشَ الجيشُ: لشکر کا لڑائی میں آپس میں گتھ جانا۔الرَّقْش و الرَّقْشَة: رنگ جس میں مٹیالا پن اور سیاہی ہو۔الأرْقَش مؤنث رَقْشَاء: سیاہ و سفید نقطوں والا۔الرَّقْشَاء (ح): ایک کیڑا ـــ من الحيَّاتِ: کوڑیالا سانپ۔الرَّقَّاش: سانپ۔الرَّقْشَاء: بوقت مستی اونٹ کے منہ کی جھاگ۔

☾ رَقَشَ ـُ رَقْشًا رَقَّشَ هُ: کو مختلف رنگوں سے بوقلموں بنانا، میں مختلف رنگوں کے ٹکڑے لگانا، کو رنگا رنگ بنانا۔رَقَّشَ هُ: کو سجانا، کی آرائش کرنا، کو آراستہ کرنا، کی سج دھج کرنا، کو سنوارنا، سنگارنا، حسین بنانا۔اَرْقَش: بوقلموں، رنگا رنگ کا، کئی رنگوں کا، رنگدار، رنگین۔مِرْقَاش جمع مَرَاقِيش: (مصور کا) برش۔

رقص: ۱۔رَقَصَ ـُ رَقْصًا: ناچنا، موسیقی یا گانے پر ناچنا، مضطرب ہونا ـــ النبيذُ: نبیذ کا جوش میں آنا ـــ في الكلام: تیزی سے بولنا ـــ رقصًا و رَقَصًا و رَقَصانًا الجملُ: اونٹ کا دوڑنا۔رَقَّصَ و اَرْقَصَ هُ: کو نچانا۔کہا جاتا ہے اَرْقَصَ القومُ في سيرهم: لوگوں کا چلنے میں اوپر نیچے ہونا۔تَرَقَّصَ الشيءُ: چیز کا تیزی سے اوپر نیچے ہونا۔اِرْتَقَصَ السعرُ: بھاؤ کا چڑھنا۔الرَّقَّاص: بہت ناچنے والا پیشہ ور رقاص ـــ البسيطُ (حی): دھاگے کے ذریعے ایک نقطہ سے لٹکتا ہوا چھوٹا سا ڈنڈا ـــ الثِقْلِيّ: بوجھ سے محور کے گرد ہر ہلنے والا جسم، اغلباً افقیا۔رَقَّاصُ الساعة: گھنٹے کا پنڈولم۔الرَّقَّاصَة: الرَّقَّاص کا مؤنث: بہت ناچنے والی، پیشہ ور رقاصہ، عربوں کے ایک کھیل کا نام شِعْرٌ مُرْقِص: نچا دینے والا شعر یعنی اپنے بیان کی خوبی سے سننے والے کو وجد میں لانے والا شعر۔فَلَاةٌ مُرْقِصَةٌ: بیابان جو چلنے والے کو جلدی کرنے کا باعث ہو۔

۲۔المَرْقَاصَة: بنجر زمین۔

☾ رَقَصَ ـُ رَقْصًا: ناچنا، (گھوڑے) کا پچھلی ٹانگوں پر اچھلنا، کلول کرنا (على) کسی دھن پر۔رَقَصَ فَرَحًا: خوشی سے ناچنا۔رَقَّصَ هُ: کو نچانا ـــ هُ: کسی چیز کو اچھالنا (گیند، ڈول وغیرہ) کو [illegible] بلند قہقہہ کا باعث بننا۔رَاقَصَ ها: (کسی لڑکی) کے ساتھ رقص کرنا۔اَرْقَصَ هُ: کو نچانا ـــ هُ: (دل وغیرہ) کو تھرانا۔تَرَاقَصَ: (دل کا) کانپنا ـــ حرکت کرنا، رقص کرنا۔رَقْص: ناچنا، رقص۔مُعَلِّمُ الرَّقْص: ناچ سکھانے والا۔رَقْصَة: ناچ، رقص۔جمع رَقَصَات۔رَقَّاص: (پیشہ ور) ناچنے والا، پنڈولم۔رَقَّاص: لٹکتا ہوا ڈنڈا جو جھولنے کیلئے آزاد ہو۔رَقَّاصه: ناچنے والی، رقاصہ۔مَرْقَص جمع مَرَاقِص: ناچنے کا ہال، بال روم، ناچ، رقص، محفل رقص، ناچ سبھا۔رَاقِص: ناچنے والا، ناچتا ہوا۔حَفْلَةٌ رَاقِصَة: رقص، محفل رقص، ناچ سبھا۔موسيقى رَاقِصَة: رقص کی موسیقی۔لَيْلَةٌ رَاقِصَةٌ: رقص کی پارٹی۔رَاقِصَة جمع رَاقِصات: ناچنے والی، گھٹنے کی چپنی ہڈی۔مُرَاقِصَة: ساتھ ناچنے والی، رقص میں شریک خاتون۔

رقط: رَقِطَ ـَ رَقَطًا: سیاہ پر سفید یا سفید پر سیاہ نقطے والا ہونا۔رَقَّطَ على الثوب: کپڑے پر روشنائی کے چھینٹے دے کر اس کو داغدار کرنا۔تَرَقَّطَ و اِرْقَطَّ اِرْقِطاطًا و اِرْقَاطَّ اِرْقِيطاطًا: سیاہ سفید دھبوں والا ہونا۔صفت اَرْقَط م رَقْطاء جمع رُقْط۔الرُّقْطَة: سیاہ پر سفید یا سفید پر سیاہ داغ۔الأَرْقَط (ح): چیتا۔الرَّقْطَاء: فتنہ و فساد ـــ (ن): آرائش کے لئے لگایا جانیوالا ایک پودا۔

☾ رَقَّطَ هُ: پر دھبے ڈالنا، چتی ڈالنا۔اَرْقَط: چتلا، داغدار، دھبے دار، چیتا۔

رقع: ۱۔رَقَعَ ـَ رَقْعًا الثوبَ: کپڑے پر پیوند لگانا۔رَقُعَ ـُ رَقَاعَةً: بیوقوف ہونا، بے شرم ہونا۔صفت: رَقِيع و اَرْقَع و مَرْقَعان۔رَقَّعَ ترقيعًا الثوبَ: کپڑے پر پیوند لگانا۔کہتے ہیں رَقَّعَ دُنياهُ بآخرتِه: اس نے اپنی دنیا کی اصلاح اپنی آخرت سے کی۔هو صاحبُ تَرْقِيعٍ و تَوْصِيلٍ: وہ لمبی بات کرنے والا ہے۔اَرْقَعَ الثوبُ: کپڑے کا قابل مرمت اور پیوند کے قابل ہونا ـــ الرجلُ: حماقت و بے وقوفی ظاہر کرنا۔اِرْتَقَعَ: کہا جاتا ہے ما اِرْتَقَعَ بِهِ ولهُ: اس نے اس پر نہ توجہ دی اور نہ اس میں دلچسپی لی۔اِسْتَرْقَعَ الثوبُ: کپڑے کا قابل مرمت اور پیوند کے قابل ہونا۔الرَّقْع (فلك): اگلوں کے نزدیک ساتواں آسمان۔الرَّقِيع جمع اَرْقِعَة (فلك): آسمان یا اگلے لوگوں کے نزدیک پہلا آسمان، احمق۔الرُّقْعَة جمع رُقَع و رِقَاع: پیوند لگانے کا کپڑے کا ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا جس پر لکھا جائے ـــ (ف ج): کاغذ،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لکڑی یا پتھر کا اوزار جو فنکار اپنے عمل کو مکمل کرنے کے لئے چنے، پہلی خارش۔ کہا جاتا ہے: فی هذا الجمل رقمة من الجرب: اس اونٹ میں پہلی خارش ظاہر ہوئی۔ رُقْعَةُ الأرض: زمین کا ٹکڑا، قطعۂ زمین، پلاٹ۔ ــ الشيءِ: کسی چیز کی اصل یا حقیقت۔ ــ الثوبِ المنقوش: اصلی کپڑا جس پر نقش و نگار بنائے گئے ہوں۔ ــ الشِطْرَنج: شطرنج کی بساط۔ الرَقْعَاء: ارقع کا مؤنث۔ بقرةٌ رَقْعَاءُ: مختلف رنگوں والی گائے۔ المُرْتَقَع: کپڑے میں پیوند لگانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: لا اری فیه مُرْتَقَعًا: میں اس میں عیب گیری یا اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں پاتا۔ جوعٌ یَرْقُوعٌ: سخت بھوک۔

۲۔ رَقَعَ ـ رَقْعًا الغَرَضَ بسهمه: نشانہ پر تیر مارنا۔ ــ الرجلَ: کی ہجو کرنا۔ ــ ذَنَبَهُ بالسوط: کی دم پر کوڑا مارنا۔ رُقْعَةُ الغَرَضِ جمع رُقَع و رِقاع: نشانہ۔ الرَقْعَة: نشانہ پر تیر لگنے کی آواز۔

۳۔ رَقَعَ ـ رَقْعًا الشیخُ: بوڑھے کا ہتھیلیوں سے سہارا لے کر اٹھنا۔

۴۔ رَقَعَ ـ رَقْعًا فی السیر: تیز چلنا۔

۵۔ رَاقَعَ الخمرَ: شراب کا عادی بننا۔

۶۔ تَرَقَّعَ البلادَ: ارزانی کے زمانہ میں ملک میں کمائی کرنا۔

○ رَقَعَ ـ رَقْعًا ہ: کپڑے پر پیوند لگانا۔ رَقُعَ ـ رَقَاعَةً: بیوقوف ہونا۔ رَقَّعَ ہ: کپڑے پر پیوند لگانا۔ رُقْعَة جمع رُقَع و رِقاع: پیوند، کپڑے کا ٹکڑا، قطعۂ زمین، خطہ، زمین، علاقہ، قطعہ، ٹکڑا (زمین کا)، (جھنڈے کی) زمین، شطرنج کی بساط، کاغذ کی سلپ، کاغذ کا ٹکڑا، نوٹ، مختصر پیغام، ٹکٹ، کوپن، بونڈ، ضمانت، کتابت کا ایک شکستہ یا رواں خط۔ رَقِيع: بیوقوف، بے شرم، بے حیا، گستاخ، بدتمیز، جمع ارْقِعَة: آسمان، فلک۔ رَقَاعَة: بیوقوفی، حماقت۔ مُرَقَّعَة و مُرَقَّعِية: دھجی، چیتھڑا۔ تَرْقِيع: پیوندکاری۔ تَرْقِيعُ القَرْنِيَة: آنکھ کے ڈھیلے کے بیرونی پردہ کی منتقلی۔ مُرَقَّعات: ٹکڑے، ٹوٹے ہوئے حصے۔

رقل: ۱۔ ارْقَلَ: جلدی کرنا۔ ــ المفازةَ: بیابان کو طے کرنا، عبور کرنا۔ المِرْقال و المُرْقِل و المُرْقِلَة من الابل جمع مَرَاقِيل و مَرَاقِل و مُرْقِلات: تیز رفتار اونٹ۔

۲۔ ارْقَلَتِ النخلةُ: کھجور کے درخت کا لمبا ہونا۔ الرَقْلَة جمع رِقال و رَقْل: کھجور کا لمبا درخت۔ الرَاقُول: کھجور کے درخت پر چڑھنے کی رسی۔

رقم: ۱۔ رَقَمَ ـ رَقْمًا: لکھنا۔ ــ الکتابَ: کتاب پر اعراب و نقطے لگانا۔ ــ الثوبَ: کپڑے پر دھاریاں ڈالنا۔ ــ الخبزَ: روٹی پر نقش بنانا۔ ــ البعیرَ: اونٹ کو داغ لگانا۔ کہتے ہیں: فلانٌ یَرْقُمُ علی الماء: فلاں شخص کاموں میں غضب کی سمجھ رکھتا ہے۔ رَقَّمَ: لکھنا۔ ــ الکتابَ: کتاب پر اعراب و نقطے لگانا۔ الرَقْم (مص) جمع ارقام و رُقُوم: مہر، نقش و نگار والا دھاریدار کپڑا یا دھاری دار چادر۔ ــ القیاسی عند الریاضیین: ریکارڈ۔ کہا جاتا ہے: ضَرَبَ الرقم القیاسیَّ: اس نے ریکارڈ قائم کیا۔ الارقامُ الهندیة: ہندسے، جیسے ۱، ۲، ۳، وغیرہ۔ الرَقَم و الرُقْمَة: ارقم کا رنگ۔ الرَقِیم: کتاب، لکھا ہوا۔ الأَرْقَم: قلم۔ ــ جمع اَرَاقِم (ح): ایک بہت زہریلا سانپ، سفید و سیاہ رنگ کا سانپ۔ مونث کو رَقْشَاء کہا جاتا ہے رَقْمَاء نہیں کہا جاتا۔ المِرْقَم جمع مَرَاقِم: قلم، لکھنے یا نقش کرنے کا آلہ، داغ لگانے کا آلہ۔ کتابٌ مَرْقُومٌ: واضح لکھی ہوئی کتاب۔ ثورٌ مرقومُ القَوَائِمِ: وہ بیل جس کی ٹانگوں پر سیاہ دھاریاں یا داغ ہوں۔

۲۔ الرُقْم (مو): کھال یا اون وغیرہ کا ٹکڑا جو بربط کے منہ سے چپکایا جاتا ہے۔ ــ والرَقِم و بنتُ الرَقِم: مصیبت: کہا جاتا ہے: جاءَ بالرقِم الرَقْمَاء: وہ بڑی مصیبت لے کر آیا۔ جاءَ بالرَقْم و الرَقِم: وہ بہت کچھ لایا۔ الرَقْمَة: وادی کا پہلو، وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ، باغ، (ن) خُبازی: کہا جاتا ہے: ما وجدت فی الارض الارْقُمَةً من کلاءٍ: میں نے زمین میں صرف تھوڑا سا گھاس پایا۔ الرَقَمَة (ن): ایک قسم کا پودا۔ ارضٌ مَرْقُومَةٌ: تھوڑے پودوں والی زمین۔

○ رَقَمَ ـ رَقْمًا ہ: کچھ لکھنا۔ (ہ): (متن) کو اعراب اور نقطے لگانا، (گھوڑے) کو داغنا، (نشان علامت) نقش کرنا، پر نشان لگانا، (کپڑے پر) دھاریاں بنانا، پر نمبر لگانا۔ رَقَّمَ ہ: (متن) پر اعراب لگانا، نقطے لگانا۔ ــ ہ: پر دھاریاں ڈالنا، خط یا لہریں ڈالنا، پر نمبر لگانا، لکیر کھینچنا۔ رَقْم جمع ارْقَام: عدد، نمبر۔ الأَرْقَامُ الهِندِیَة: عربی اعداد۔ رقم القیاس و رقم قیاسی: ریکارڈ (کھیلوں میں)۔ سَجَّلَ رَقْمًا قِیاسِیًّا: ریکارڈ قائم کرنا۔ رَقِیم: کتبہ، مکتوب، پیغام۔ مِرْقَم جمع مَرَاقِم: ڈرائنگ (کرنے والی) پنسل، رنگدار چاک، رنگین کھریا، رنگین گچ، مصور یا (رنگساز کا) برش۔ تَرْقِیم: نقطے لگانا، اعراب لگانا، نمبر لگانا۔ مَرْقُوم جمع مَرَاقِیم: دھاریدار کمبل یا چادر۔

رقن: رَقَنَ ـ رَقْنَات الجاریةُ: لڑکی کا مہندی لگانا۔ رَقَّنَ تَرْقِینًا: کتاب کو مزین کرنا، سجانا، خط یا تصاویر کو قریب قریب کرنا۔ ــ ہُ: کو لکھنا۔ ــ لحیتَهُ: اپنی داڑھی پر خضاب لگانا۔ ــ الکتابَ: کتاب کو سجانا اور خوبصورت بنانا، کی سطریں قریب قریب کرنا۔ ــ الخطَّ: پر نقطے لگانا۔ ارْقَنَ لحیتَهُ: اپنی داڑھی کو خضاب لگانا۔ ــ و تَرَقَّنَ و اِرْتَقَنَ و اِسْتَرْقَنَ: (مہندی یا زعفران سے) خضاب لگا ہوا ہونا۔ الرِقان و الرَقُون و الإِرْقَان (ن): مہندی یا زعفران۔ الرَقِین و المَرْقُون: لکھا ہوا۔ التَرْقِین: رَقَّنَ کا مصدر۔ التَرْقِینَة: کا "ة" ایک بار کے معنی میں ہے۔ المُرَقِّن: کتاب کو مزین کرنے والا۔

رقو: الرَقْو و الرَقْوَة: ریت کا بلند اور گول ٹیلا۔

○ رقوص: تَرَقْوَصَ: اپنے آپ کو ادھر ادھر پھینکنا، لڑھکنا۔

رقی: ۱۔ رَقِیَ ـ رُقِیًّا و رُقِیًّا الجبلَ و فیه و الیه: پہاڑ پر چڑھنا۔ کہا جاتا ہے: ارْقَ علی ضَلْعِكَ: اتنا چڑھو جتنا چڑھ سکو اور اپنے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ رَقَّی تَرْقِیَةً ہُ: کو اوپر کرنا، پر چڑھانا، کو اٹھانا۔ تَرَقَّی تَرَقِّیًا الجبلَ و فیه و الیه: پہاڑ پر چڑھنا۔ ــ فی السُلَّم: ایک ایک ڈنڈا کر کے پایہ بہ پایہ سیڑھی پر چڑھنا۔ ــ به الامرُ: کسی امر کی انتہاء کو پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: مازال فلانٌ یَتَرَقَّی به الامرُ حتی بلغ غایتَهُ: کے معاملہ ایک حالت سے دوسری میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ انتہاء کو پہنچ گیا۔ ــ الرجُلَ: کی ہنسلی کی ہڈی پر مارنا۔ تَرَاقَی امرُهم إلی الفساد: ان کا معاملہ فساد تک جا پہنچا۔ اِرْتَقَی اِرْتِقَاءً الجبلَ و فیه و الیه: پہاڑ پر چڑھنا۔ ــ فی السُلَّم: سیڑھیاں چڑھنا۔ ــ به الامرُ: کا معاملہ کا اپنی انتہا کو پہنچنا۔ الرَقَّاء: پہاڑوں پر چڑھنے والا۔ التَرْقُوَة (ع ا): ہنسلی کی ہڈی۔ المَرْقَی و المَرْقَاة جمع مَرَاقٍ: سیڑھی کا پایہ، ڈنڈا۔ المِرْقاة جمع مَرَاقٍ: سیڑھی کا پایہ، ڈنڈا، بوجھ اٹھانے والی ایک کل، لفٹ۔ اسے مِصْعَد بھی کہا جاتا ہے۔ المُرْتَقَی: چڑھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: لقد ارتقیتَ مُرْتَقًا صَعْبًا: تو ایک مشکل جگہ چڑھ گیا ہے۔ مکانٌ صعبُ المُرْتَقَی: وہ جگہ جس پر چڑھنا دشوار ہو۔

۲۔ رَقَی ـ رَقْیًا و رُقِیًّا و رُقْیَةً ہُ و علیه: کسی کو نفع یا ضرر رسانی کے لئے ٹونا یا منتر کرنا۔ اِسْتَرْقَی ہُ: سے منتر یا جادو کرنے کو کہنا۔ ــ له: کسی کیلئے منتر،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ٹوٹکے یا جادو کرنے والے کو طلب کرنا، تعویذ گنڈے کرنے والے کو تلاش کرنا۔ الرُّقْيَة جمع رُقًى و رُقْيَات و رُقَيَات: منتر، افسوں، تعویذ۔ الرَّاقِي (فا) جمع رُقَاة و راقُون مونث رَاقِيَة جمع رَوَاقٍ: منتر کرنے والا، تعویذ گنڈے کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: رَجلٌ راقِيةٌ: یہاں تاء مبالغہ کی ہے، تانیث کی نہیں معنی تعویذ گنڈے یا منتر کرنے والا مرد۔ الرَّقَّاء: جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے میں بڑا ماہر۔

○ رَقِيَ ـَ رُقِيًّا و رُقِيًّا في/الی: پر چڑھنا، تک چڑھ کر جانا۔ ـــ: عہدہ میں ترقی پانا، آگے بڑھنا۔ ـــ إلى: (فلاں زمانہ) کا ہونا۔ رَقِيَ بِهِ: کو اوپر لے جانا، کو ترقی دینا، بڑھانا، کی جرأت دلانا۔ رَقَى ـِ رُقْيَةً ہ من: پر کسی چیز کے خلاف جادو کرنا، منتر کرنا، افسوں کرنا۔

رَقَّى: چڑھنے کا باعث ہونا۔ ـــ ہ: کو ترقی دینا۔ ـــ ہ: کو آگے بڑھانا، کو تقویت پہنچانا، کے لئے کام کرنا، کی خدمت کرنا، تائید کرنا، کو اونچا کرنا، بلند کرنا۔

تَـرَقَّى: چڑھنا، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، اونچا ہونا، ابھرنا۔ اِرْتَقَى: چڑھنا، اونچا ہونا۔ ـــ ہ: پر چڑھنا۔ ـــ العرشَ: تخت نشین ہونا، سریر آرائے سلطنت ہونا۔ ـــ ہ: پر سوار ہونا۔ ـــ العَرَبَةَ: گاڑی میں سوار ہونا۔ ـــ الی منصب: کسی منصب یا عہدہ میں ترقی کر جانا۔ ـــ إلى: کی تعداد تک بڑھنا۔ ـــ: آگے بڑھنا، ابھرنا، اوپر کی طرف رجحان ظاہر کرنا، اوپر کی طرف ترقی کرنا۔ ـــ إلى: (کسی زمانہ) کا ہونا۔ رُقْيَة جمع رُقًى: جادو، منتر، افسوں، ٹونا، ٹوٹکا، تعویذ، گنڈا۔ رَقَّاء: جادوگر، ساحر، فسوں گر۔ أَرْقَى: زیادہ اونچا، برتر، زیادہ ترقی یافتہ۔ مِرْقَاة جمع مَرَاقٍ: سیڑھیاں، زینہ، سیڑھی کا پایہ، قدمچہ، سیڑھی، لفٹ، بوجھ وغیرہ اٹھانے یا اوپر لیجانے والی کل۔ تَـرْقِيَة: اونچا کرنا، بلند کرنا جمع تَـرْقِيَـات: کسی منصب یا عہدہ پر ترقی، سربلندی، عروج، رفعت، بلندی، صعود، سرفرازی، ترقی، حوصلہ افزائی، ہمت افزائی، اعانت، امداد، آگے بڑھانا، برتری، توسیع، پھیلاؤ، اضافہ، بالیدگی، ترقی یافتہ حالت، بہتری۔ تَـرَقٍّ جمـع تَـرَقِّيَـات: چڑھائی، بلندی، چڑھنا، بلند ہونا، اوپر جانا، صعود، عروج، پیش قدمی، سرفرازی، اضافہ، ترقی، ارتقاء، نشوونما، ترقی پذیر بہتر صورت۔ اِرْتِقَـاء: چڑھنا، سوار ہونا، بلندی، چڑھاؤ، صعود، عروج، ترقی، ارتفاع، ارتقاء، نشو و نما، ترقی پذیر بہتر صورت۔ ارتقاءُ العرش: تخت نشینی۔ رَاقٍ: چڑھنے والا، سر ابھارنے والا، بلند، عالی، اعلی عہدہ دار، برتر، اونچے درجہ کا، بلند طبقے کا، اعلی معیار کا، تعلیم یافتہ، شائستہ، ترقی یافتہ۔ الطبقة الراقية: بالائی طبقہ۔ رَاقٍ جمع رُقَاة: جادوگر، افسوں گر، ساحر، سیانا۔ مُرْتَقٍ: اونچا، بلند، برتر، ترقی یافتہ (خصوصاً شعوری طور)۔ مُرْتَقًى: ترقی، بلندی، ارتفاع، چڑھاؤ، عروج، اٹھان، ترقی، افزونی۔

رك: ا۔ رَكَّ ـِ رَكًّا و رِكَّةً و رَكَاكَةً: کمزور ہونا، پتلا ہونا۔ کہتے ہیں: اقطعه من حيث رَكَّ: اسے وہاں سے کاٹو جہاں کمزور اور پتلا ہو۔ ـــ الرجلُ: کم علم یا کم عقل ہونا۔ رَكَّكَ و أَرَكَّ السحابُ: بادل کا تھوڑی اور ہلکی بارش برسانا۔ رُكِّكَ و أُرِكَّت الارضُ: زمین کا تھوڑی اور ہلکی بارش سے سیراب ہونا۔ اِرْتَكَّ: کانپنا۔ ـــ في الامر: کسی امر میں شک کرنا۔ اِسْتَرَكَّ ہ: کو کمزور پانا یا سمجھنا۔ الرَّكّ جمع رِكَاك و أَرْكَاك و الرَّكَّة و الرَّكِيكَة: ہلکی بارش، ننھی بوندوں کی بارش۔ الرِّكّ جمع رِكَاك و أَرْكَاك: ہلکی بارش، کمزور۔ أَرْضٌ رِكٌّ: زمین جہاں تھوڑی بارش ہوئی ہو۔ الرُّكَاك و الأَرَكّ: عقل و رائے کی کمزوری والا۔ الرَّكِيك جمع رِكَاك و رَكَكَة: عقل ورائے میں کمزور، ڈھیلا ڈھالا، کم ہمت۔ ـــ من الكلام: پھسپھسا کلام۔ رجلٌ رَكِيكُ العلم: کم علم مرد۔ ثوبٌ رَكِيكُ النسج: چھدری بناوٹ کا کپڑا۔ الرُّكَاكَة جمع رِكَاك: بمعنی الرُّكاك۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ رُكَاكَةٌ وامرأةٌ رُكَاكَةٌ: عقل اور رائے میں کمزور مرد اور عورت۔ الرُّكُوكَة: کمزوری۔

۲۔ رَكَّ ـُ رَكًّا الشيءَ: چیز کے ایک حصہ کو دوسرے پر چننا۔ کہا جاتا ہے: رَكَّ الأمرَ في عُنُقِهِ: اس نے کام اس کے گلے ڈال دیا۔ ـــ الشيءَ بيده: چیز کو ہاتھ سے دبا کر اس کا حجم معلوم کرنا۔ الرَّكَّة (ب): ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے پتھر۔

۳۔ أَرَكَّ الحقُّ فلاناً: پر حق کا غالب ہونا۔

۴۔ رَكْرَكَ رَكْرَكَةً الشيءُ: چیز کا کمزور ہونا۔ کہا جاتا ہے: به رَكْرَكَةٌ: اس کی ہر چیز میں کمزوری ہے۔ ـــ الرجلُ: بزدل ہونا۔

○ رَكَّ ـِ رَكًّا و رِكَّةً و رَكَاكَةً: کمزور ہونا، ناتواں ہونا، حقیر ہونا، ناکافی ہونا، کم ہونا، قلیل ہونا، کم مقدار میں ہونا۔ ـــ ـُ رَكًّا: رَكَّ الشيءَ في عُنُقِهِ: پر بھاری ذمہ داری ڈالنا، پر کوئی چیز ٹھونسنا۔ رِكَّة: کمزوری، ناتوانی، ضعف۔ رَكِيك جمع رِكَاك و رَكَكَة: کمزور، ناتواں، بے لطف، پھیکا (جیسے پھیکا طرز بیان)، حقیر، ناکافی، کم، قابل افسوس۔ رُكَاك: کمزور، ناتواں۔ رَكَاكَة: کمزوری، ناتوانی، عاجزی، کوتاہی، کمی، کافی نہ ہونا، بے رنگی، پھیکا پن، بے رونقی (جیسے انداز، طرز وغیرہ کی)۔ رُكَّة: تکلا، سلائی دار پونی۔ طِبُّ الرُّكَّة: عورتوں کی طرف سے بیماری کا عامیانہ علاج بذریعہ تعویذ، گنڈے، ٹونے، ٹوٹکے وغیرہ۔

ركب: ا۔ رَكِبَ ـَ رُكُوبًا و مَرْكَبًا الدابةَ و على الدابة: جانور پر سوار ہونا۔ ـــ البحرَ: سمندر میں سفر کرنا۔ ـــ الطريقَ: راستہ پر چلنا۔ ـــ أَثَرَهُ: کا پیچھا کرنا۔ ـــ هُ الدَّيْنُ: مقروض ہونا۔ رَكَّبَهُ الفرسَ: کو گھوڑے پر سوار کرنا۔ ـــ الشيءَ: ایک کو دوسری پر رکھنا۔ أَرْكَبَ ہ: کو سواری دینا۔ ـــ المُهْرُ: بچھیرے کا سواری دینے کے قابل ہونا۔ تَـرَكَّبَ: سوار ہونا، ترکیب پانا۔ تَرَاكَبَ الامرُ: معاملہ کا تہہ بہ تہہ ہونا۔ اِرْتَكَبَهُ: پر سوار ہونا۔ ـــ الدَّيْنَ: قرض زیادہ لینا۔ الـرَّكْـب جمـع أَرْكُـب و رُكُوب: اونٹوں یا گھوڑوں کے سوار۔ یہ اسم جمع ہے اور بعض کے نزدیک جمع ہے۔ الـرِّكْبَة: جانور پر سواری، سوار ہونے کی ایک قسم۔ کہا جاتا ہے: هو حَسَنُ الرِّكْبَة: وہ ایک اچھا سوار ہے۔ الرِّكَاب جمع رُكُب: سوار کے پیر رکھنے کی جگہ۔ ـــ جمع رُكُب و رَكَائِب و رِكَابَات: سواری کے اونٹ واحد: رَاحِلَة۔ رِكَابُ السحاب: ہوائیں۔ الرَّاكِب (فا) جمع رُكَّاب و رُكْبَان و رُكُوب و رِكَبَة و رَكْب و رَكَبَة: سوار۔ الـرَّاكِبَة جـمـع رَوَاكِـب: الراكب کا مؤنث۔ ـــ و الرَّاكُوب و الرَّاكُوبَة: کھجور کے درخت کی نئی شاخ جو اس کے سب سے اوپر کے حصہ سے لٹکتی ہو اور زمین تک نہ پہنچتی ہو۔ الرَّكِيب جمع رُكُـب: دو سواروں میں سے پچھلا سوار، سوار، جڑی ہوئی چیز۔ الرَّكُوب: بہت سوار ہونے والا۔ ـــ والـرَّكُـوبَة جمـع رَكَـائِـب: سواری کا اونٹ، سواری۔ طَـرِيـقٌ رَكُـوبٌ: بہت چلتا ہوا راستہ۔ الرَّكَّاب مونث رَكَّابَة: بہت سوار ہونے والا۔ الـمَـرْكَـب (مص): سواری، تری کی ہو یا خشکی کی (جیسے جہاز، کشتی، اونٹ گھوڑا وغیرہ)۔ الـمُـرَكَّـب: اصل۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ كريمُ المُرَكَّب: فلاں شخص شریف الاصل ہے۔ الـجـهـلُ المُـرَكَّب: نہ جانتے ہوئے اپنے کو جاننے والا سمجھنا۔ الـمَـرْكُـوب (مفع) جمع مَرَاكِيب: سواری (گھوڑا وغیرہ)۔ الـمَـرْكَـبَـات واحد مَرْكَبَة: مختلف قسم کی گاڑیاں

nmrfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جنہیں گھوڑے خچر وغیرہ کھینچتے ہوں یا بھاپ یا بجلی وغیرہ کی طاقت سے چلنے والی گاڑیاں۔

۳۔ رَكِبَ ـ رُكُوبًا و مَرْكَبًا رأسَهُ: بے سوچے لاپروائی سے کسی کام کو کر گزرنا۔ ــــ هواه: خواہش کا تابع ہونا۔ ــــ الذَّنْبَ: گناہ کا مرتکب ہونا۔ ــــ الخطرَ: اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ رَكِبَ فلانٌ رأسَه: منہ کے بل زمین پر گر پڑنا۔ اِرْتَكَبَ الامرَ: کسی معاملہ یا کام میں بے دھڑک گھس پڑنا۔ ــــ الذنبَ: گناہ کرنا، جرم کرنا۔

۳۔ رَكِبَ ـ رَكَبًا: بڑے زانو والا ہونا۔ ــــ ہُ: کے گھٹنے پر مارنا۔ رُكِبَ: گھٹنے میں درد والا ہونا۔ الرُّكْبَة جمع رُكَب و رُكْبات و رُكُبات و رُكَبات (ع ا): گھٹنا، زانو۔ کہا جاتا ہے: هذا امرٌ اصطكت فيه الرُّكَب: یہ ایسا معاملہ ہے جس میں خوف کی شدت سے گھٹنے کانپنے لگے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ الأرْكَب: بڑے زانو والا۔ بَعِيرٌ اَرْكَب: اونٹ جس کا ایک گھٹنا دوسرے سے بڑا ہو۔

۴۔ رُكْبَةُ الدجاجة و رُكْبَةُ الرامي (فلك): دو ستاروں کے نام۔ الرَّكِيب جمع رُكُب: کھیتی۔ نَخلٌ رَكِيبٌ: نہر وغیرہ کے کنارے پر کھجوروں کی قطار۔

رَكِبَ ـ رُكوبًا ہ: کسی جانور پر سوار ہونا، چڑھنا، کسی گاڑی، ٹرین، آٹو موبائل یا جہاز و کشتی وغیرہ میں جانا، سفر کرنا، کسی گاڑی، سائیکل پر چڑھنا، سوار ہونا، سواری کرنا، کسی گاڑی میں بیٹھنا، سائیکل پر چڑھنا، ٹرین، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ پر سوار ہونا۔ ــــ ہ ب: کا ــــ سے پیچھا کرنا، کے ساتھ کسی کے پیچھے ہونا۔ ــــ ہ: میں مشغول ہونا، کوئی نیا کام شروع کرنا، کوئی گناہ جرم کرنا یا گناہ یا جرم کا ارتکاب کرنا۔ ــــ ہ: میں ماہر ہونا، استاد ہونا۔ ركب البحرَ: بذریعہ سمندر سفر کرنا۔ ــــ الحياة: زندگی پر قابو پانا۔ ركب الخطرَ: کوئی خطرناک کام شروع کرنا۔ ركب خيولَهُ الحربية: برتر انداز سے کام کرنا۔ ركب ذَنَبَ الريح: کے ساتھ ساتھ ہوا کی طرح تیزی سے گذرنا۔ رَكِبَ رأسَهُ: اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنا، بے سمجھے بوجھے کوئی کام کرنا، بے دھڑک کوئی کام کرنا، من کی موج پر چلنا۔ ركب السيارةَ: کار کے ذریعے جانا، کار پر جانا، کسی آٹو موبائل پر سفر کرنا۔ ركب الشَّطط: زیادتیاں کرنا، بے اعتدالیاں کرنا، بہت دور چلا جانا۔ ركب الطيارةَ: پرواز کرنا، ہوائی جہاز سے جانا۔ ركب مَتْنَ العُنْف: تشدد کرنا۔ ركب مَرْكَبَ الخَطَل: احمقانہ غلطی کرنا، حماقت کا ارتکاب کرنا، عاقبت نااندیشی کے رویہ کا آغاز کرنا، غیر ذمہ دارانہ کام کرنا۔ ركب مَطِيَّةَ الاخْفاق: غلط گھوڑے پر شرط لگانا، ناکام ہونا، خسارہ میں جانا۔ ركب الاهوال: دہشتوں کو للکارنا۔ ركب الهواءَ: پرواز کرنا، ہوائی جہاز سے سفر کرنا۔ ركب هواه: اپنی خواہش پر چلنا۔ رَكَّبَ ہ: کو سوار کرنا۔ ــــ ہ على: کو پر رکھنا، کو پر چڑھانا، باندھنا۔ ــــ ہ في: کو میں فٹ کرنا، جڑنا، ڈالنا، بٹھانا، جمانا، لگانا۔ ــــ ہ: کو مشین وغیرہ کا مستقل جز بنانا، کے پرزے جوڑنا، کے پرزے یکجا کرکے پوری کل بنانا، مشین بنانا، کو نصب کرنا، بجلی کی لائن وغیرہ بچھانا، کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، باہم فٹ کرنا، کو بنانا، تیار کرنا (بہت سے اجزا ترکیبی سے)، کو تعمیر کرنا، بنانا (کوئی ٹیکنیکل آلات تعمیر کرنا یا بنانا)۔ اَرْكَبَ ہ: کو سوار کرنا، چڑھانا۔ اركبه رأسَهُ و هواهُ: کو جو دل آئے کرنے دینا، کو من مانی کرنے دینا۔ تَرَكَّبَ من: سے مرکب ہونا، بننا، تیار کیا جانا۔ تَراكَبَ: ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہونا۔ اِرْتَكَبَ ہ: (گناہ، جرم) کرنا، کچھ کام کرنا، کو انجام دینا، جاری رکھنا۔ ارتكب شَطَطًا: کسی چیز میں مبالغہ سے کام لینا، معقول حد سے تجاوز کرنا۔ رَكْب: سوار، شہسوار، سواروں کا پرا، کاروان، قافلہ، سفری جماعت، نوکر چاکر، خدم و حشم، حفاظتی دستہ، بدرقہ، جلوس، لوگوں کا گروہ (سفر پر جانے والا یا سفر سے آیا ہوا)۔ رُكْبَة جمع رُكَب و رُكُبات: گھٹنا۔ ابُوُ الرُّكَب: جوڑوں میں بہت درد والا بخار، گھٹنوں کا درد۔ رِكاب جمع رُكُب: رکاب زین کے دونوں طرف لٹکتی ہوئی سوار کے پاؤں رکھنے کی جگہ۔ (جمع ركابات و رُكُب و ركائب): سواری کا اونٹ، سواری کا جانور، سواری، گھوڑا۔ حَلَّ رِكابَهُ بِأَرْضِنا: وہ ہماری زمین پر آیا ہے۔ هُوَ فِيْ رِكابِهِ: وہ اس کا وفادار حامی یا پیرو ہے، وہ اس کا قریبی پیروکار ہے۔ سارَ فی رِكابِهِ: کے ساتھ ساتھ رہنا، کسی کا اندھوں کی طرح طابع فرمان ہونا۔ رَكُوب: سواری، گھوڑا، سواری کا جانور۔ رَكُوبَة جمع رَكائِب: سواری، گھوڑا، سواری کی اونٹنی۔ رُكُوب: (گھوڑے یا اونٹ کی پیٹھ پر) سوار ہونا، سواری کرنا، (کسی گاڑی وغیرہ میں، بذریعہ بحری جہاز، ہوائی جہاز وغیرہ) سفر کرنا، بائسکل، گھوڑوں وغیرہ پر) چڑھنا، سوار ہونا (ٹرین، بحری جہاز وغیرہ) پر جانا، سفر کرنا۔ رُكُوبُ البحر: بحری جہاز چلانا۔ رُكُوبُ الهواء: اڑنا، پرواز کرنا، ہوابازی۔ رَكَّاب: اکثر سواری کرنے والا، پیشہ ور شہسوار، یا سوار، جاکی، جوکی (jockey)۔ رُكْبان: حفاظتی دستہ، جلو، خدم و حشم۔ ذِكْرُهُ سارَ بِهِ الركبانُ: اس کی شدت دور دور تک پھیل گئی ہے۔ مَرْكَب جمع مَراكِب: بحری جہاز، کشتی۔ مركبٌ بُخَارِيٌّ: دخانی کشتی، جہاز۔ مركبٌ حربيّ: جنگی جہاز۔ مركبٌ دورِيّ: گشتی کشتی۔ مركب شِراعِي: بادبانی کشتی، جہاز۔ مركبُ الصَّيْد: ماہی گیر جہاز، مچھلی پکڑنے کی کشتی۔ مركبُ النَقْل: مال بردار جہاز۔ مَرْكَبَة جمع مَرْكَبات: گاڑی، گھوڑا گاڑی، ریل گاڑی (کا ڈبہ) بگھی، ٹیکسی، کرائے کی کار۔ مَراكِبي جمع مَراكِبِيَة: کشتی والا، کشتی بان، مانجھی، گھاٹ ملاح۔ تَرْكِيب جمع تركيبات و تَراكِيب: لگانا، جوڑنا، رکھنا، بٹھانا، جڑنا، ڈالنا، شامل کرنا، بنانا، تعمیر کرنا، چڑھنا، پرزے جوڑنا، پرزے یکجا کرکے پوری کل بنانا، تنصیب (جیسے ٹیلیفون ایکسٹیشن کی) بنانا، تیار کرنا (مختلف اجزاء سے) تعمیر، عمارت (ٹیکنیکل)، ڈھانچ، ڈھانچہ، ساخت، بناوٹ، جسم کی ساخت، جسم (جمع تراكيب) نکتہ، ترکیب کہاوت، پرمعنی مقولہ، محاورہ، تعبیر، عبارت، کلام۔ تَرْكِيبي: تاویلی، تعبیری، اصلاحی، ترکیبی۔ اِرْتِكاب: (گناہ یا جرم کا) ارتکاب، سرزد ہونا۔ راكِب: سوار، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار، (کسی گاڑی میں) سفر کرنے والا یا گاڑی میں سوار و جمع رُكّاب و رُكْبان: سوار، گھوڑے پر سوار، شہسوار، (جمع رُكّاب): مسافر، (کسی گاڑی وغیرہ میں) سوار (یا بیٹھا ہوا)۔ راكِبُ درّاجة: سائیکل سوار، سائیکل والا۔ مَرْكُوب جمع مَراكِيب: سواری کا جانور، سواری، گھوڑا، سرخ چمڑے کے جوتے۔ مُرَكِّبات: مشتمل باجزاء، لازمی اجزاء، عناصر، اجزائے ترکیبی۔ مُرَكَّب على: پر بٹھایا ہوا، لگایا ہوا، چڑھایا ہوا، باندھا ہوا، جوڑا ہوا۔ ــــ في: میں داخل یا شامل کیا ہوا، فٹ کیا ہوا، جڑا ہوا، رکھا ہوا، دھرا ہوا، چسپاں کیا ہوا۔ ــــ: ممتاز اضافہ، پرزے جوڑا ہوا۔ ــــ من: پر مشتمل، سے بنا ہوا۔ ــــ: مرکب، ملا جلا، پیچیدہ الجھا ہوا، بندھا ہوا، بقیہ۔ ــــ (جمع مُرَكَّبات): مرکب، اجزائے ترکیبی، ملا جلا، پیچیدہ، کھانے یا لگانے کی دواء، دوا والا ہونا۔ ربح مُرَكَّب: سود مرکب، سود در سود۔ مُرَكَّبٌ كيميائي: کیمیاوی مرکب۔ مُرَكَّبُ نَقْصٍ: احساس کمتری، اپنی غریبی نالائقی یا کمزوری کا احساس۔ مُرْتَكِب: (کسی جرم کا) ارتکاب کرنے والا، مرتکب۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رکح: ا۔ رَکَحَ ـَ رَکْحًا علی الشیء و الیه: کا سہارا لینا، پر ٹیک لگانا۔ ــــ رُکُوحًا الیه: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ اَرْکَحَ علیه: کا سہارا لینا۔ ــــ ہُ الیه: کی پر ٹیک لگانا۔ کہا جاتا ہے: ارکحتُ الیه ظھری: میں نے اس پر اپنی پیٹھ ٹکائی۔ اِرْتَکَحَ علی الشیء و الیه: کا سہارا لینا، پر ٹیک لگانا۔ الرُکْح جمع اَرْکاح و رُکُوح: بنیاد، پہاڑ کی نکلی ہوئی نوک، پہاڑ کا پہلو۔

۲۔ تَرَکَّحَ فی الدار: گھر میں فراخی و کشادگی کرنا۔ ــ فی المعیشة: وسعت معیشت کیلئے تصرف کرنا۔ ــــ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ الرُکْح جمع اَرْکاح و رُکُوح: گھر کا صحن۔ الأَرْکاح: راہبوں کے گھر۔ الرُکْحَة جمع رُکَح: گھر کا صحن۔

۳۔ الرَکْحَاء: سخت اٹھی ہوئی جگہ۔

رکد: رَکَدَ ـُ رُکُودًا الماءُ او الریحُ: پانی یا ہوا کا رکنا، ٹھہر جانا۔ ــ المیزَانُ: ترازو کا برابر ہونا۔ ــ عصیرُ العنب: انگور کے نچوڑ کا جوش ٹھنڈا ہونا۔ ــ العَکَرُ والثُفْل: تلچھٹ کا برتن کے نچلے حصہ میں بیٹھ جانا۔ ــــ ت الشمسُ: سورج کا سر پر آ کر ٹھہرنا معلوم ہونا۔ کہا جاتا ہے: رکدت ریحُھم: ان کی حکومت جاتی رہی۔ الرَاکِد (فا): اپنی جگہ ٹھہرا ہوا، بے حرکت۔ الرَکُود: بھرا ہوا پیالہ، ہمیشہ دودھ دینے والی اونٹنی۔ المَرَاکِد: ٹھہرنے کی جگہیں۔

Ⓙ رَکَدَ ـُ رُکُودًا: بے حرکت ہونا، بند یا بند پڑا ہوا ہونا، ساکن ہونا۔ رُکُود: توقف، معطلی، موقوفی، رکنا، ٹھہراؤ، ساکن ہونا، رک جانا، جمود، جماؤ، رکاؤ، سکون، سستی، کاہلی، سکوت، سناٹا، گہری خاموشی۔ رَاکِد: سست، بند، بند پڑا ہوا، بے حرکت، ساکن، جامد، مندا، سرد، مٹھا۔

رکز: ا۔ رَکَزَ ـِ رَکْزًا الرمحَ و نحوَہ: نیزہ وغیرہ کو زمین میں گاڑنا، دفن کرنا، قائم کرنا۔ رَکَّزَ الرُمْحَ و نحوہ: بمعنی رَکَزَہ۔ اَرْکَزَ المعدنُ: کان کا دھات والی ہونا۔ ــ الرجلُ: دھات پانا۔ تَمَرْکَزَ فی المکان: کسی جگہ کو اپنا مرکز بنانا۔ اِرْتَکَزَ الشیءُ: چیز کا اپنی جگہ جمنا۔ ــــ علی العصا: لاٹھی کا سہارا لینا، لاٹھی پر ٹیک لگانا۔ الرَاکِز: باوقار، ٹھنڈے مزاج والا (عام زبان میں)۔ الرِکْز: دانا، فیاض آدمی۔ الرِکْزَة: ہوشیاری، حکمت، دانائی، ثبات عقل۔ (کہا جاتا ہے: کَلَّمتُهُ فما رأیتُ له رِکْزَةً: میں نے اس سے گفتگو کی تو اس کو ٹھوس عقل کا نہیں پایا) جڑ سے اکھڑا ہوا کھجور کا درخت۔ الرِکاز واحد رِکْزَة جمع اَرْکِزَة و رِکْزَان: زمین کے اندر قدرتی پیداوار پر مشتمل دفن شدہ دھاتیں۔ الرَکِیزَة جمع رَکائِز: زمین کے اندر مدفون جواہر۔ ــ عند العامة: لکڑی کا پتلا ستون جس سے جھونپڑے کو سہارا دیا گیا ہو۔ الرَکائِز (ب): موٹے ستون جو چھوٹی مسجدوں میں اس لئے بنائے جاتے ہیں کہ پتھروں سے بنی چھت کو سہارا ملے۔ المَرْکَز جمع مَرَاکِز: دائرے کے بیچ کا حصہ، کسی آدمی یا والی کی رہائش گاہ۔ مَرَاکِزُ الاَسْنَان: دانت اگنے کی جگہیں۔

۲۔ رَکَزَ ـ رَکْزًا العِرقُ: رگ کا پھڑکنا۔ اِرْتَکَزَ العِرقُ: رگ کا پھڑکنا۔

۳۔ الرِکْز: دھیمی آواز، آہٹ۔

Ⓙ رَکَزَ ـِ رَکْزًا ہ: (کوئی چیز جیسے کھمبے) کو زمین میں گاڑنا، لگانا، ٹھونسنا، کو مضبوطی سے لگانا، جڑنا، جمانا، گاڑنا۔ رَکَّزَ ہ: (کھمبا وغیرہ) کو زمین میں لگانا، ٹھونسنا، گاڑنا، جمانا، کو خاص طریقہ یا مقام میں لگانا یا ترتیب دینا، کو مضبوطی سے لگانا، جڑنا، جمانا، گاڑنا، کو اپنانا، کو اختیار کرنا، مستحکم کرنا۔ ــ ہ فی: کو پر مرتکز کرنا، (ایک نقطے) پر جمع کرنا، مرکوز کرنا، کام کو پوری توجہ سے کرنا، اپنی توجہ کو پر مرکوز کرنا۔ تَرَکَّزَ: مرتکز ہونا، مرکوز ہونا، ایک نقطہ پر جمع کرنا۔ تَرَکَّز: تیار (ریس میں حصہ لینے والوں کو دوڑنے کا اشارہ کرنے والے کا حکم)، اِرْتَکَزَ: لگنا، ــ فی: میں ٹھہرنا، مستقل طور پر رہنے لگنا، آباد ہونا۔ ــــ علی/ الی: پر جھکنا، پر اپنے بوجھ کو سہارا دینا، ــ علی: پر جڑا ہوا ہونا، چڑھا ہوا ہونا، پر مبنی ہونا، ٹیک لگانا۔ ــــ فی: پر توجہ مرکوز کرنا، صرف اسی کو کرنا، کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ رِکْز: آواز۔ رَکْزَة: مختصر وقفہ، آرام، وقفہ۔ رِکاز جمع اَرْکِزَة و رِکْزَان: قیمتی معدنیات، زمین کے مدفون خزانے۔ رَکِیزَة جمع رَکائِز: خزانہ، تائید، حمایت، سہارا، لوہے کے پتر، لکڑی کی پتلی تختیاں، کنارا، ساحل، سلاخ، میخ، کھمبا، ستون، تھم، ٹیک، آڑا، لاٹ، بند، پشتہ، ڈھیر، انبار، ٹیکن۔ مَرْکَز جمع مَرَاکِز: پاؤں رکھنے کی جگہ، اڈا، مقام، مرکز، مستقر، وہ جگہ جہاں کسی کو تعینات کیا گیا ہو، چوکی، تھانہ، دفتر، شاخ کا دفتر، branch office، جائے ... ع، منظر، (کا) موقع، (کی) جگہ، مرکز ہیڈ کوارٹر، صدر مقام، پوزیشن (عسکری) ... دفتر، مرکزی ... (ٹیلیفون)، دائرہ کا مرکز، مرکز نگاہ، مرکز شعاع، ماسکہ۔ مرکز: انتظامی ضلع۔ (مدیریّة کا) سب ڈویژن، مقام، درجہ یا منصب حالت، صورت حال، عہدہ، (سماجی، مالی، سرکاری) حیثیت، مسلمہ حیثیت، (کسی ملک کا) مقام یا طاقت، مرکز اساسی: بنیاد، نقطۂ آغاز، مرکز البویس: پولس سٹیشن، تھانہ۔ مَرَاکِزُ حَیَوِیَة: قوت حیات کے مرکز۔ مَرْکَزُ الادارة: بڑا دفتر، مرکزی دفتر، صدر مقام، ہیڈ کوارٹر۔ مرکز الدَاء: بیماری والی جگہ۔ مرکزُ الاذاعة: براڈ کاسٹنگ اسٹیشن۔ مرکزٌ رئیسي: بڑا دفتر، صدر دفتر، ہیڈ کوارٹر۔ مرکز الرِیاسَة: سنٹرل کمانڈ پوسٹ۔ مرکز ریاسة الجیش: آرمی کی سپریم کمانڈ۔ مرکز رعایةِ الطفل: بچوں کے لئے مرکز صحت۔ مرکز السِکّة الحدیدة: ریلوے جنکشن۔ مرکز نیابی: پارلیمانی نشست، اختیارات تفویض کرنے والا فرمان۔ مرکز الشُرْطَةِ: پولس اسٹیشن (تھانہ)۔ مرکز التَوْلید: پاور ہاؤس، بجلی گھر۔ مَرْکَزِی: مرکزی، ضلعی۔ لامرکزی: مرکز گریز۔ مقامی (انتظامیہ)۔ مَرْکَزِیَة: مرکزیت، مرکزی نظام، مرکزی حیثیت یا صورت حال لامرکزیة: مرکزیت کو توڑ دینا، مقامی اقتدار کو قائم کرنا۔ جَهَازُ الترکیز: مستحکم یا قائم رکھنے کا آلہ، (stabilizer)۔ تَرَاکُز: ہم مرکزیت۔ اِرتکاز: سہارا، تائید۔ مُرَکَّز: مرکوز، مرکز میں لایا ہوا، کثیف، جما ہوا، مرتکز، مختصر۔ مُتَرَاکِز: ہم مرکز۔

رکس: ا۔ رَکَسَ ـُ رَکْسًا الشیءَ: کسی چیز کے اگلے حصہ کو پچھلے حصہ پر الٹ دینا۔ اَرْکَسَ ہُ: کو اوندھا کرنا۔ ــــ الشیءَ: کو اس کی پہلی حالت پر لوٹانا۔ ــ الثوبَ فی الصبغ: کپڑے کو رنگ میں دوبارہ ڈبونا۔ اِرْتَکَسَ: اوندھا ہونا، سے نجات پا کر پھر اس میں پڑنا۔ الرِکْس: گرنے کے بعد مرمت کی ہوئی عمارت، گندگی۔ ــــ من الناس: لوگوں کی جماعت۔ الرَکِیس: اوندھا، کمزور اوندھا۔

۲۔ رَکَسَ ـُ رَکْسًا البعیرَ: اونٹ کے رِکاس باندھنا۔ الرِکاس: اونٹ کی نکیل میں ڈال کر گھٹنے سے باندھی جانے والی رسی۔ اِرْتَکَسَ فی مکانِہ: اپنی جگہ اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ الرِکْس: پل۔ الرَکَاسَة و الرِکاسَة: زمین میں گاڑی ہوئی میخ، کیل وغیرہ۔

۳۔ اَرْکَسَتِ الجاریةُ: لڑکی کے پستان ابھرنا، ظاہر

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۴- تَراكَس الشعرُ: بالوں کا تہہ بہ تہہ ہونا۔ اِرْتَكَس: بھیڑ کرنا۔

۵- اِرْتَكَسَ: (کو) سخت دھچکا لگنا، پیچھے پھینکا جانا، ختم ہونے کے قریب ہونا، بگڑ جانا (اخلاقی لحاظ سے گر جانا)، خوار ہونا، چھوٹا سا رہ جانا۔

رکض: ا- رَكَضَ - رَكْضًا: دوڑنا، پاؤں ہلانا۔ ـــ ہٗ: کو ہٹانا۔ ـ الارضَ و الثوبَ: زمین یا کپڑے کو پاؤں سے ملنا۔ ـــ الفرسَ بِرِجْلَيْهِ: گھوڑے کو دوڑانے کے لئے ایڑ لگانا۔ ـــ الطائرُ بِجناحَيْهِ: پرندے کا بازو پھڑپھڑانا۔ ـــ منه: سے تیزی سے بھاگ جانا۔ ـــ ت النجومُ: ستاروں کا چلنا۔ ـ القوسَ: تیراندازی کرنا۔ رُكِضَ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑایا جانا۔ صفت: مَرْكُوض۔ راكَضَ مُراكَضَةً ہٗ: سے گھڑ دوڑ میں مقابلہ کرنا۔ تَراكَضَ القومُ: ساتھ ساتھ دوڑنا۔ اِرْتَكَضَ خيلَهم اليه: اپنے گھوڑوں کو کی طرف دوڑانا۔ ـ القومُ في الميدان: دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔ الرَّكْضَة: حرکت، دھکا۔ الرَّكُوض: تیز۔ المِرْكاض: بہت دوڑنے والا۔ قوسٌ مُرْكِضَةٌ: کمان جس کے تیر تیزی سے لپکتے ہوں۔ المِرْكَضَة: گھوڑا جو دوڑتے ہوئے اپنی ٹانگوں سے زمین کو لتاڑے۔

۳- اِرْتَكَضَ: حرکت کرنا، بے قرار ہونا۔ ـ الجنينُ: بچہ کا اپنی ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا۔ ـــ الرجلُ في امره: اپنے معاملہ میں تصرف کرنا۔ المِرْكَض جمع مَراكِض: وہ چیز جس سے آگ سلگائی جائے۔ ـ من القوس: کمان کا کنارا۔ مَراكِضُ الحوض: حوض کے کنارے جن سے پانی آکر ٹکرائے۔ المِرْكَضَة: کمان کا کنارا۔

۞ رَكَضَ - رَكْضًا: دوڑنا، تیزی سے جانا، دوڑ میں مقابلہ کرنا، بھاگ جانا، (گھوڑے کا) سرپٹ دوڑنا۔ ـ ہ: گھوڑے کو سرپٹ دوڑانا۔ راكَضَ ہ: کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرنا، کے ساتھ گھوڑا دوڑانا۔ تَراكَضَ: دوڑ میں مقابلہ کرنا، تیز دوڑنا۔ رَكّاض: دوڑ میں مقابلہ کرنے والا، دوڑنے والا۔ رَكُوض: تیز دوڑنے والا، تیز (دوڑنے والا یا کسی کام کرنے میں)۔

رکع: رَكَعَ - رَكْعًا و رُكُوعًا: بدن خم کرنا، سر جھکانا۔ اسی سے صلوٰۃ میں رکوع ہے۔ ـــ الی اللہ: اللہ تعالیٰ کے سامنے پست ہونا۔ ـ الرجلُ: محتاج و بدحال ہونا، اوندھا ہونا، ٹھوکر کھانا۔ رَكَّعَ و اَرْكَعَ ہٗ: کو جھکانا، رکوع کرانا۔ الراكِع (فا) جمع راكِعُون و رُكَّع و رُكُوع: سر جھکانے والا۔ الرَّكْعَة: ایک رکعت۔ ـــ و الرُّكْعَة: زمین کا گڑھا۔

۞ رَكَعَ - رُكُوعًا: جسم کو جھکانا، (نماز میں) جھکنا، رکوع میں جانا، دوزانو ہونا، گھٹنوں پر جھکنا۔ رَكَّعَ و اَرْكَعَ ہ: کو دوزانو کرنا، گھٹنوں کے بل کھڑا کرنا، گھٹنوں پر جھکانا۔ رَكْعَة: رکعت۔ راكِع جمع رُكَّع: زمین کی طرف جھکنے والا۔

رکل: ا- رَكَلَ - رَكْلًا ہٗ: کولات مارنا۔ کہا جاتا ہے: رَكَلَ الفرسَ: اس نے گھوڑے کو دوڑانے کے لئے ایڑ ماری۔ رَكَّلَ ہٗ: کولات مارنا۔ ـــ ت الخيلُ الارضَ: گھوڑے کا زمین پر ٹاپ مارنا۔ راكَلَ صاحبَهٗ: ایک دوسرے کولات مارنا۔ تَرَكَّلَ الحافرُ بالمِسْحاة و عليها: کو پاؤں سے زمین میں دھنسانا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا جانوروں کے سموں سے لتاڑا یا روندا جانا۔ تَراكَلَ القومُ: ایک دوسرے کولاتیں مارنا۔ الرَّكْلَة: رَكْل کا اسم مرۃ، ایک دفعہ لات مارنا۔ المَرْكَل جمع مَراكِل: راستہ، جانور کو ایڑ لگانے کی جگہ۔ آپ کہتے ہیں: فرسٌ نَهْدُ المَراكِل: کشادہ پیٹ اور بڑی ایڑی لگانے کی جگہوں والا گھوڑا۔ المِرْكَل جمع مَراكِل: سوار کا پاؤں۔

۲- الرُّكَل (ن): گندنا۔ الرُّكْلَة: سبزی کا گٹھا۔ الرَّكّال: گندنے بیچنے والا۔

۞ رَكَلَ - رَكْلًا ہ/ہ: کولات مارنا، ٹھوکر مارنا، (جانور کو) ایڑ لگانا۔ الرَّكْلَة: لات، ٹھوکر، ایڑ۔

رکم: رَكَمَ - رَكْمًا الشيءَ: کا ڈھیر لگانا، تہ بہ تہ کرنا۔ تَراكَمَ و اِرْتَكَمَ الشيءُ: چیز کا ڈھیر لگنا۔ کہا جاتا ہے: تَراكَمَ لحمُ فلان: فلاں شخص موٹا ہو گیا۔ الرُّكَم: تہ بہ تہ بادل۔ الرُّكْمَة: کیچڑ کا ڈھیر۔ الرُّكام: تہ بہ تہ بادل یا ریت وغیرہ۔ قطيعٌ رُكامٌ: بڑا ریوڑ۔ سحابٌ مركومٌ: تہ بہ تہ بادل۔ ناقة مَرْكُومَة: فربہ اونٹنی۔ الرَّكِيمَة الذَّرِّيَّة: ایٹمی قوت کو پیدا کرتے رہنے والا آلہ۔ المِرْكَم (ف): سٹوریج بیٹری پیدا کرنے والا آلہ۔ مُرْتَكَمُ الطريق: شاہراہ۔

۞ رَكَمَ - رَكْمًا ہ: کا ڈھیر لگانا، انبار لگانا، کو جمع کرنا، فراہم کرنا، تعداد یا مقدار میں بڑھانا۔ تَراكَمَ: کا ڈھیر لگنا، انبار لگنا، بادلوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ اِرْتَكَمَ بمعنی تَراكَمَ۔ مَرْكَم جمع مَراكِم: سٹوریج بیٹری۔ تَراكُم: ڈھیر، انبار۔

رکن: ا- رَكَنَ - و رَكِنَ - رُكُونًا اليه: کی طرف مائل ہونا، جھکنا، کو اپنا ہی گھر سمجھنا، پر بھروسہ کرنا۔ اَرْكَنَ اليه: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ الرُّكْن جمع اَرْكان و اَرْكُن: جس سے قوت حاصل کی جائے، عزت، قوت و غلبہ۔ ـــ من الشيء: جزء، مضبوط پہلو۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ رُكْنٌ من اَرْكان قومه: وہ اپنی قوم کے شرفاء میں سے ہے۔ رُكْنُ الرجل: آدمی کی قوم اور بنیاد۔ الاَرْكان: اربعہ عناصر: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ اَركانُ الحَرْب: جنرل سٹاف، جنرل سٹاف کے جمع ہونے کی جگہ۔ الرَّكِين: ثابت قدم۔ ـــ من الجبال: اونچے اطراف اور پہلوؤں والا پہاڑ۔ الاُرْكُون جمع اَراكِنَة: سربراہ، سردار، میجر، نمبردار۔

۲- رَكُنَ - رَكانَةً و رُكُونَةً: باوقار ہونا، سنجیدہ ہونا۔ رَكَّنَ ہٗ: کو باوقار و سنجیدہ بنانا۔ تَرَكَّنَ: مضبوط ہونا، باوقار ہونا۔ الرَّكِين: سنجیدہ، باوقار۔

۳- الرُّكْن جمع اَرْكان و اَرْكُن: بڑا معاملہ۔ الرَّكْن (ح): چوہا، جنگلی چوہا۔ المِرْكَن جمع مَراكِن: ٹب، لگن۔

۞ رَكَنَ - رُكُونًا و رَكِنَ - الی: پر جھکنا، ٹیک لگانا۔ ـــ: خاموش ہونا یا ہو جانا۔ ـ الی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، کا دست نگر ہونا، کا متوسل ہونا، پر بھروسہ کرنا پڑنا۔ رکن الی الهدوء: خاموش رہنا۔ اَرْكَنَ الی: پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کی طرف رجوع کرنا۔ يُرْكَنُ اِلَيْه: معتبر، قابل اعتماد، بھروسہ کے لائق، بھروسے کا، قابل اعتبار۔ اِرْتَكَنَ الی/علی: پر جھکنا، ٹیک لگانا، تکیہ کرنا۔ رُكْن جمع اَرْكان: سہارا، آسرا، کونہ، گوشہ، بنیاد، بنیادی عنصر، پہلا اصول۔ اَرْكان: سٹاف، بنیادی عناصر، خاص عناصر۔ اركانُ الحرب: جنرل سٹاف۔ اركانُ الجيش: جنرل سٹاف۔ رئيسُ اَرْكانِ الجيش: چیف آف جنرل سٹاف۔ وَثِيقُ الاَرْكان: مضبوط کاٹھی کا، ہٹا کٹا، قوی ہیکل۔ ضربةٌ رُكْنِيَّة: کونے کی ٹھوکر۔ رَكِين: مضبوط، متوازن، معتدل، ٹھنڈے دل و دماغ کا، سنجیدہ، خاموش، متین۔ رُكُون: اعتماد، بھروسہ، اعتبار۔ مِرْكَن: ٹب۔ مُراكَنَة: منگنی، نسبت۔ اِرْكان: اعتماد، بھروسہ، اعتبار۔

رکا: ا- رَكا - رَكْوًا الارضَ: زمین کو کھودنا۔ اَرْكَى اِرْكاءً الارضَ: زمین کھودنا۔ الرَّكِيَّة جمع رَكايا و رَكِيّ: پانی والا کنواں۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ رَكَا ـ رُكُوًّا الحوضَ: حوض کو مرمت کر کے تیار کرنا۔ ـ الامرَ: کام کو درست کرنا۔ ـ الشيءَ: چیز کو باندھنا۔ اَرْكَى اِرْكَاءً الحوضَ: حوض کو مرمت کر کے تیار کرنا۔ المَرْكُوّ: کنویں کا چوبچہ۔

۳۔ رَكَا ـ رُكُوًّا الامرَ: معاملہ کو موخر کرنا، ملتوی کرنا۔ اَرْكَى اِرْكَاءً الامرَ: معاملہ کو موخر کرنا، ملتوی کرنا۔

۴۔ رَكَا ـ رُكُوًّا الحملَ على البعيرِ: اونٹ پر بوجھ کو دو چند کرنا۔

۵۔ رَكَا ـ رُكُوًّا على فلان: کی بدگوئی کرنا۔ اَرْكَى اِرْكَاءً عليه: کی بدگوئی کرنا۔

۶۔ رَكَا ـ رُكُوًّا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ رَاكَى على الامر: کسی امر پر بھروسہ کرنا، کا اعتبار کرنا، پر اعتماد کرنا۔ اَرْكَى اِرْكَاءً اليه: کسی کی پناہ لینا، کی طرف مائل ہونا۔ ـ لهم جندًا: کے لئے لشکر تیار کرنا۔ تَرَكَّى و ارْتَكَى عليه: پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔

۷۔ الرَّكْوَة جمع رِكَاء و رَكَوَات: چھاگل، قہوے کا جگ۔ ـ الرِّكْوَة و الرُّكْوَة جمع رِكَاء و رَكَوَات: چھوٹی کشتی، ڈونگا، کولہو کے نیچے رس جمع کرنے کے لئے رکھا جانے والا برتن۔ المُرْتَكِي والمَرَاكِي: دیرپا، ثابت۔

○ رَكْوَة جمع رَكَوَات: قہوے کا چھوٹا جگ جو تانبے کا ہوتا ہے۔

رَمَّ: ۱۔ رَمَّ ـ رَمًّا و مَرَمَّةً البناءَ او الامرَ: عمارت کی مرمت کرنا، معاملہ درست کرنا۔ ـ السهمَ بعينِهِ: تیر کو دیکھ کر اس کو برابر کرنا۔ رَمَّمَ البناءَ: عمارت کی مرمت کرنا۔ تَرَمَّمَ الشيءَ: کسی چیز کی اصلاح کے پیچھے لگنا۔ اِسْتَرَمَّ البناءُ: عمارت کا مرمت کے قابل ہونا۔ ـ الرجلُ: مرمت واصلاح کے لئے بلانا۔ الرَّمّ (مص): کہا جاتا ہے: مالي منه حَمٌّ و لارَمٌّ: میرے لئے اسکے بغیر چارہ نہیں۔ ماله حَمٌّ ولارَمٌّ: اس کے پاس کچھ نہیں۔ الرَّامَّة من الجواري جمع رُمَّم: سلیقہ دار ماہر لڑکی۔

۲۔ رَمَّ ـ رَمًّا و مَرَمَّةً تِ البهيمةُ: چوپایہ کا ٹہنیوں کو منہ سے پکڑ کر کھانا۔ ـ الشيءَ: کو کھانا۔ تَرَمَّمَ العظمَ: ہڈی کو گوشت سے صاف کرنا۔ اِرْتَمَّتِ البهيمةُ: چوپایہ کا منہ سے ٹہنیوں کو پکڑ کر کھانا۔ ـ ما على الخوان: دسترخوان کا سب کھانا چٹ کر کے اسے صاف کردینا۔ الرِّم: زمین پر گھاس کے بھورے، ترمٹی، کہا جاتا ہے: جَاءَ بالطِّمِّ و الرِّمِّ: وہ رطب ویابس، خشکی وتری مٹی و پانی یا بہت مال لایا۔

المَرَمَّة و المِرَمَّة: کھر دار جانور کا ہونٹ۔

۳۔ رَمَّ ـ رِمَّةً و رَمًّا و رَمِيمًا العظمُ: ہڈی کا بوسیدہ ہونا صفت: رَمِيم جمع اَرِمَّاء ورِمَام۔ ـ الحبلُ: رسی کا ٹوٹنا۔ اَرَمَّ العظمُ: ہڈی کا بوسیدہ ہونا، پر مغز ہونا۔ الرَّمّ: غم۔ الرِّم: گودا۔ الرُّمَّة جمع رُمَم: بوسیدہ رسی کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے: اَعْطَاهُ الشيءَ بِرُمَّتِهِ: اس نے اسے پوری چیز دی۔ الرِّمَّة جمع رِمَم و رِمَام: پرانی رسی کا ٹکڑا، بوسیدہ ہڈی۔ الرَّمِيم و الرُّمَام: بوسیدہ۔ حبلٌ رِمَام و اَرْمَامٌ و رِمَمٌ: بوسیدہ رسی۔ المُرِمَّات: مصیبتیں۔

۴۔ اَرَمَّ الى اللهو: کھیل کود کی طرف مائل ہونا۔ الرُّمَامَة: بقدر ضرورت گذارہ۔ کہا جاتا ہے: اِكْتفى بالرُّمَامَةِ: اس نے ضروریات پوری کرنے والی زندگی پر قناعت کی۔

۵۔ اَرَمَّ القوم: لوگوں کا خاموش ہونا۔

۶۔ الرُّمّ: جماعت، گروہ۔ الرِّمَّة جمع رِمَم و رِمَام (ح): پردار چیونٹی۔

۷۔ رَمْرَمَ: اپنی حالت درست کرنا۔ تَرَمْرَمَ: بولنے کے لئے منہ ہلا کر خاموش رہنا۔

○ رَمَّ ـ رَمًّا و مَرَمَّةً ہ: کی مرمت کرنا، کو جانچ پڑتال کر کے یا کھول کھال کر ٹھیک کرنا۔ ـ رَمًّا و رِمَّةً: گلنا، سڑنا، خراب ہونا، بوسیدہ ہونا، ضائع جانا، کو گھن لگنا۔ تَرَمَّمَ: (کی) مرمت ہونا۔ رَمّ: مرمت۔ رَمُّ الأسنان: دانتوں کی بوسیدگی۔ رِمَّة: لاش۔ برمته: یہ سب، سارا، تمام، جملہ، پورا، کامل، مکمل، پورا پورا۔ سورية برمّتها: پورا شام (کا ملک)۔ رَمِيم: گلا سڑا، بوسیدہ، خراب۔ رَمَائِم: بوسیدہ ہڈیاں۔ رُمَام: گلا سڑا، بوسیدہ، خراب۔ مَرَمَّة جمع مَرَمَّات: مرمت، بحری جہاز بنانے یا مرمت کرنے کی جگہ۔ تَرْمِيم جمع تَرْمِيمات: جانچ پڑتال یا کھول کھال کر ٹھیک کرنا، بحالی، پہلا سا بنا دینا۔

رما: رَمَأَ ـ رَمْأً و رُمُوْءًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـ الخبرَ: خبر کا گمان کرنا، اندازہ کرنا۔ ـ على المائة: سو سے زیادہ ہونا۔ اَرْمَأَ على المائة: سو سے زیادہ ہونا۔ ـ اليه: کے قریب ہونا۔ مُرَمَّأَات الأخبار: جھوٹی بے بنیاد خبریں۔

رمث: ۱۔ رَمَثَ ـ رَمْثًا ہ: کی اصلاح کرنا، درستی کرنا، کو ہاتھ سے پوچھنا۔ اَرْمَثَ الشيءَ: چیز کو نرم کرنا۔ الرِّمْث: پھٹے پرانے کپڑوں میں پیلوں

الرَّمَث جمع اَرْمَاث و رِمَاث: لکڑی کے گٹھوں کا بیڑا، بوسیدہ رسی۔ حبلٌ اَرْمَاث (حبلٌ ارمام کی طرح): بوسیدہ رسی۔

۲۔ رَمَثَ ـ رَمْثًا ہُ: کو چرانا۔

۳۔ رَمَثَ ـ رَمْثًا الشيءَ بالشيءِ: ایک چیز کو دوسری سے ملانا، مخلوط کرنا۔ رَمِثَ ـ رَمَثًا امرُهُم: کا معاملہ مخلوط و بے ترتیب ہونا، گڈمڈ ہونا۔

۴۔ رَمِثَ ـ رَمَثًا البعيرُ: اونٹ کا رمث درخت کے پتے کھانے سے بیمار ہونا۔ الرِّمْث (ن): جھاؤ کے درخت جیسا ایک درخت، اونٹوں کی چراگاہ جس میں ایک قسم کی تلخ گھاس جسے حمض بھی کہتے ہیں پائی جاتی ہے۔ الرَّمْثَاء و المَرْمَثَة: رمث گھاس اگانے والی زمین۔

۵۔ رَمَّثَ الحالبُ في الضرع: دوہنے والے کا تھنوں میں کچھ دودھ باقی چھوڑنا۔ اَرْمَثَ الحالب في الضرع: دوہنے والے کا تھنوں میں کچھ دودھ باقی چھوڑنا۔ ـ اِسْتَرْمَثَ في ماله: مال میں کچھ باقی رکھنا، چھوڑنا۔ الرَّمَث جمع اَرْمَاث و رِماث: تھن میں چھوڑا ہوا باقی دودھ۔ الرُّمْثَة: دوہنے کے بعد تھن میں باقی بچنے والا دودھ۔

۶۔ رَمَّثَ على المائة: سو سے اوپر یا زائد ہونا۔

۷۔ الرِّمْث: پیٹھ کا کمزور شخص۔ الرَّمَث جمع اَرْمَاث و رِمَاث: فضیلت۔ کہا جاتا ہے: لفلان على فلانٍ رَمَثٌ: فلاں شخص کو فلاں شخص پر فضیلت حاصل ہے۔

○ رَمَث جمع اَرْمَاث: لکڑی کے گٹھوں کا بیڑا۔

رمج: رَمَجَ ـ رَمْجًا الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ رَمَّجَ الكاتبُ: لکھنے والے کا اپنے لکھے ہوئے کو بگاڑ دینا۔ الرَّامِج (ح): زندہ پرندہ جو باز وغیرہ کے شکار کے لئے جال سے باندھ کر بطور طعمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ الرُّمَّاج: نیزے کی گرہیں اور پوریاں۔

رمح: ۱۔ رَمَحَ ـ رَمْحًا ہُ: کو نیزہ مارنا۔ ـ البرقُ: بجلی کا بار بار ہلکا ہلکا چمکنا۔ رَامَحَ ہُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ تَرَامَحَ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے کو نیزے مارنا۔ الرُّمْح جمع رِمَاح و اَرْمَاح: نیزہ۔ کہا جاتا ہے: كسروا بينهم رُمْحًا: انکے درمیان شر و فساد بھڑک اٹھا۔ رُمِيْنَا بيومٍ كظلِّ الرُّمْحِ: ہمارا پالا لمبے اور مصیبت کے دن سے پڑا۔ هم على بني فلانٍ كرمحٍ واحدٍ: وہ لوگ بنی فلاں کے خلاف ایک جی اور متحد ہیں۔ اخذت الابلُ رِمَاحها: اونٹنیاں دودھ دینے لگیں اور انہوں نے خود

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کو ذبح ہونے سے بچالیا۔ الـرَّامِـح: نیزہ والا۔ ثورٌ رَامِحٌ: دو سینگوں والا بیل۔ السِماكُ الرامح (فلك): ایک ستارہ کا نام ہے۔ الـرَّمَّـاح جمع رَمَّاحَة: نیزہ بنانے والا، نیزہ لینے والا۔ الرَمَّاحة من القِسِيّ: زور سے نیزہ پھینکنے والی کمان۔ الرِمَاحَة: نیزہ سازی کا پیشہ۔

۲۔ رَمَحَ - رَمْحَاتُهُ الدابَّةُ: کو جانور کا لات مارنا۔

۳۔ الــرُمْـح: فقروفاقہ، تنگدستی اور فاقہ کشی۔ دابَّةٌ رَمَّاحَةٌ و رَمُوح: بہت کاٹنے والا جانور۔

○ رَمَحَ - رَمْحًاه: کو نیزہ سے چھیدنا، کو نیزہ چبھونا، کے نیزہ آر پار کرنا۔ -: (گھوڑے کا) سرپٹ دوڑنا۔ رُمْح جمع رِمَاح و اَرْمَاح: نیزہ، بھالا، برچھی، بلم، سنان، بان، قطب۔ رَمْـيُ الـرُمْـح: برچھی پھینکنا۔ رَمَّاح جمع رَمَّاحَة: نیزہ باز، نیزہ بردار، رسالے کا سپاہی جو نیزہ سے مسلح ہو۔ پروشیا کا نیزہ بردار سوار۔ السِماكُ الرَامِح: ایک ستارہ کا نام۔

رمخ: اَرْمَخَ الـرجـلُ: نرم و ذلیل ہونا۔ الـرِمْـخ: گنجان درخت۔

رمد: ۱۔ رَمَدَ - رَمْـدًا و رِمَـادَةً: ٹھنڈ سے ہلاک ہونا۔ — ہ رَمْدًا القومَ: قوم کو تہس نہس کر دینا، ہلاک کر دینا۔ رَمِدَ - رَمَدًا عيشُ القومِ: قوم کا ہلاک ہونا۔ اَرْمَدَهُ: کو ہلاک کرنا۔ — القومُ: قوم کے مویشیوں کا ہلاک ہوجانا۔ الرَمَادَة: ہلاکت۔

۲۔ رَمِدَ - رَمَدًا تِ العینُ: آنکھ کا آشوب کرنا۔ — الـرجلُ: کی آنکھ کا دکھنا، آشوب چشم ہونا۔ اَرْمَدَ العینَ: آنکھ کو آشوب زدہ کرنا۔ اِرْمَدَّتِ العینُ: آنکھ کا آشوب کرنا۔ الـرَمَد (طب): آشوب چشم، آنکھ دکھانے والی ہر چیز۔ الـرَمِد مونث رَمِدَة: آشوب چشم والا۔ الاَرْمَد مونث رَمْدَاء: آشوب چشم میں مبتلا۔ الـمُـرْمَـدُ و الْمُرْمَدّ: آشوب چشم والا۔

۳۔ رَمَدَتِ النَاقَةُ: اونٹنی کا تھن والی ہونا۔

۴۔ رَمَدَ الشيءَ: چیز کو راکھ میں رکھنا۔ اَرْمَدَ: فقیر و محتاج ہونا۔ — ہٗ: کو راکھ کر ڈالنا، تباہ و برباد کر دینا۔ — القومُ: قوم کا قحط زدہ ہونا۔ اِرْمَدَّ الشيءُ: چیز کا راکھ جیسے رنگ والا ہونا۔ — فلانٌ: شترمرغ کی طرح دوڑنا۔ — الرَمِد مونث رَمِدَة من المیاہ: متغیر پانی۔ — من الثیاب: میلا کچیلا کپڑا۔ الرَمَاد جمع اَرْمِدَة: راکھ۔ کہتے ہیں: هو ينفخ في رَمَادٍ: وہ راکھ میں پھونکیں مارتا ہے یعنی بے فائدہ و بے نتیجہ کام کرتا ہے۔ الـرَمَـادِيّ: راکھ جیسے رنگ والا، خاکستری رنگ کا۔ الـرَمَـادِيَّة (ن): ایک پھولدار پودا۔ الـرُمْـدَة: راکھ کا رنگ۔ الأَرْمَد مؤنث رَمْداء: خاکستری رنگ کا۔ ثوبٌ اَرْمَد: میلا کچیلا کپڑا۔ الـرُمْـداء جمع رُمْد: شترمرغ۔ الـمُـرَمَّـد: بھوبھل میں بھنا ہوا۔ الـرِمْـدَاء و الارْمِدَاء: راکھ۔

○ رَمِدَ - رَمَدًا: کسی کی آنکھوں کا دکھنا، آشوب چشم ہونا، آنکھوں کا سرخ ہونا۔ رَمَّدَ ہ: کو جلا کر راکھ کر ڈالنا، خاکستر کر ڈالنا۔ تَـرَمَّدَ: جل کر راکھ ہوجانا۔ رَمَـد: آنکھ کا آنا، ورم چشم، آشوب چشم۔ رَمَـد حُبَيْبِـي: آنکھ کی ایک بیماری جس میں پپوٹے کے اندر دانے نکل آتے ہیں۔ مستشفی الرَمَد: آنکھوں کا مطب۔ رَمَدِي و طبيبٌ رَمَدِيٌّ: ماہر امراض چشم، معالج امراض چشم، آنکھوں کا ڈاکٹر۔ رَمِد: آشوب چشم والا۔ اَرْمَد: آشوب چشم والا۔ رَمَاد جمع اَرْمِدَة: راکھ۔ اَرْبعاءُ الرماد یا نوم الرماد یا عید الرماد: عیسائی چلے کا پہلا دن، سر پر راکھ ڈالنے کا دن (Ash wednesday)۔ نـفـخ في الرماد: بے نتیجہ کاموں میں مشغول ہونا۔ رَمَادِي: خاکستری۔ تَـرْمِيد: لاش جلانا، نعش سوزی، جلا کر راکھ کرنا، کشتہ بنانے کا عمل۔

رمز: ۱۔ رَمَزَ - رَمْزًا اليه: کی طرف اشارہ کرنا۔ تَرَامَزَ القومُ: ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: دخلت عليهم فتغامزوا و ترامزوا: میں ملاقات کے لئے ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ بازی کی۔ الـرُمُـز و الرُمْز و الرَمَز جمع رُمُوز: اشارہ۔ الرَمَّازَة: زانیہ، رنڈی۔ الرَمْزِيَّة: اشاریت، رمزیت۔

۲۔ رَمَزَ - رَمَزَانًا الظبيُ: ہرن کا چھلانگ مارنا۔ تَـرَمَّزَ و اِرْتَمَزَ: تیار ہونا۔ — من الضربة: چوٹ سے بلبلا جانا۔ — القومُ: اٹھنے کے لئے یا خصومت کے لئے اپنی جگہ کسمسانا، کلبلانا۔ اِرْمَازَّ اِرْمِئْزَازًا الرجلُ: متحرک ہونا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اپنی جگہ جمے رہنا (ضد)، منقبض ہونا۔ الرَمِيز: بہت حرکت کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: رجل رَمِيز الفؤاد: تنگ دل آدمی۔ الـتـرامِـز من الابل: مضبوط اور پوری طاقت والا اونٹ۔ الـرَمَّازَة: بڑا لشکر۔ اِبِـل مَـرَامِيز: بہت حرکت کرنے والے اونٹ۔

۳۔ رَمَزَ - رَمْزًا ہٗ بکذا: کو سے اکسانا، بھڑکانا۔

۴۔ رَمَزَ - رَمْزًا القِربةَ: مشک کو بھرنا۔

۵۔ رَمُزَ - رَمَـازَةً: عاقل ہونا، اصیل ہونا، کریم و معظم ہونا۔ الرَمِيز: اصیل، عقلمند، معظم، کریم۔

○ رَمَزَ - رَمْزًا: اشارہ کرنا، آنکھ سے اشارہ کرنا، سر سے اشارہ کرنا، لب کر یا اشارے سے کہنا۔ — الی: کو انگلی سے بتانا، اشارہ کرنا، کی طرف اشارہ کرنا، کی علامت ہونا، کا کنایۃً اظہار کرنا، کا نمونہ ہونا، کی نمائندگی کرنا، کا کردار ادا کرنا۔ — الی/ل ب: کو (ایک امتیازی نشان) سے معین کرنا۔ رَمْـز جمع رُمُـوز: اشارہ، سر کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ، حرکت، کنایہ، تلمیح اطلاع دینا، مجازیت، پہیلی، چیستان، معمہ، نشان، علامت، رمز، مجازی صورت، شکل، خصوصیت، خفیہ، علامت یا نشان یا اشارہ، خفیہ اشارہ۔ رَمْزِيّ: رمزی علامتی، اشارے یا علامت کا، خفیہ تحریر میں، خفیہ رسم الخط میں۔ رَمْزِيَات: خفیہ تحریر، خفیہ رسم الخط۔ رَامُوز جمع رَوَامِيز: نمونہ، بانگی، چرم، ہو بہو نقل۔

رمس: ۱۔ رَمَسَ - رَمْسًا ۃ: کو ڈھانپنا، دفن کرنا، زمین میں گاڑنا۔ — القبرَ: قبر پر مٹی برابر کرنا۔ — الخبرَ: خبر کو چھپانا۔ ارمس المیتَ: میت کو دفنانا۔ اِرْتَمَسَ في الماء: پانی میں ڈوبنا۔ الرَمْس (مص) جمع رُمُوس و اَرْمَاس: قبر جو زمین کے برابر ہو، قبر کی خاک، آہستہ دھیمی آواز۔ الـرامُوس جمع رَوَامِيس: قبر۔ الرَوَامِس: رات کو نکلنے والے جانور، رات کو اڑنے والے پرندے۔ — والـرَامِسَـات: نشانات کو مٹا دینے والی ہوائیں۔ المَرْمَس: قبر کی جگہ۔

۲۔ رَمَسَ - ہٗ بالحجر: پر پتھر پھینکنا۔ صفت مفعولی: رَمِيس و مَرْمُوس۔

○ رَمَسَ - رَمْسًاه: کو دفنانا۔ — ہ: قدموں کے نشانات کو چھپا دینا، مٹانا، محو کرنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا۔ اِرْتَمَسَ في الماء: پانی میں ڈوبنا۔ رَمْس جمع رُمُـوس و اَرْمَـاس: قبر، مقبرہ۔ رَامُوس: قبر، مقبرہ۔

رمش: ۱۔ رَمَشَ - رَمْشًا الشيءَ: کو انگلیوں کے سروں سے پکڑنا۔ — ہٗ بیده: کو ہاتھ سے چھونا۔ — ہٗ بالحجر: کو پتھر مارنا۔

۲۔ رَمَشَ - رَمَشَـاتِ الغنمُ: بکریوں کا تھوڑا سا چرنا۔ اَرْمَش الشجرُ: درخت کا پتے لانا، پھل دار ہونا۔ الرُمْشُ: پھولوں کا دستہ۔ الاَرْمَش مونث رَمْشاء جمع رُمْش: خوبصورت ساخت والا، مختلف رنگوں والا۔ ارضٌ رَمْشَاء: بہت گھاس

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والی زمین۔
۳۔رَمَشَ ۔ رَمْشًا تِ العینُ: آنکھ کا تھوڑا سا چپکنا۔
اَرْمَشَ الرجلُ: ضعف کی وجہ سے کسی کی طرف
بہت دیکھنا۔۔۔ فی الدمع: تھوڑے سے آنسو
بہانا۔رَمْشُ العین: آنکھ کی پلک۔الرَمَش
(طب): پلکوں کی سرخی اور ساتھ ساتھ پانی کا بہنا،
پلکوں کے بالوں کا آپس میں چپکنا۔الأَرْمَش
والمُرَمَّش: چندھی آنکھوں والا۔المِرْماش
جمع مَرَامِش: دیکھتے وقت آنکھوں کو بہت
مٹکانے والا۔
۴۔الرُمْش سفیدی جو جوانوں کے ناخنوں پر ظاہر ہوتی
ہے۔
○ رمش رمشا ہ کو انگلیوں کے سروں سے لینا،
پکڑنا۔۔۔ آنکھ یا پلک یا پلکیں جھپکنا۔ر ش
پپوٹوں کی سوجن۔رَمْشة: پلک جھپکنا، آنکھ جھپکنا۔
رِمْش جمع رُمُوش: پلک۔
رمص: ا۔رَمَصَ ۔ رَمْصًا اللّٰہُ مصیبتَہُ: اللہ تعالیٰ
کا کسی کی مصیبت کو ٹالنا۔۔ بینھم: میں صلح کرانا۔
۲۔رَمَصَ ۔ رَمْصًا الشیءَ: کو ڈھونڈنا، ٹٹولنا۔
۳۔رَمَصَ ۔ رَمْصًا تِ الدجاجةُ: مرغی کا بیٹ کرنا۔
صفت رَمُوص۔۔۔ ت السباعُ: درندہ کا بچہ
جننا، کہا جاتا ہے: قَبَّحَ اللّٰہُ اُمًّا رمصت بہ: اللہ
تعالیٰ اس کی ماں کی شکل بگاڑے جس نے اسے جنا۔
۴۔رَمَصَ ۔ رَمْصًا الیہ: کی طرف پست نگاہ سے
دیکھنا۔رَمِصَ ۔ رَمَصًا ت عینُہ: کی آنکھ سے
کیچڑ بہنا صفت: اَرْمَص مؤنث رَمْصاء جمع
رُمْص۔۔۔ الرجلُ: کیچڑ والی آنکھوں والا ہونا۔
الرَمَص (مص): آنکھ کا کیچڑ۔
رمض: ا۔رَمَضَ ۔ رَمْضًا الغنمَ: بکریوں کو سخت
گرم زمین میں چرانا۔۔ النصلَ: پھل کو دو پتھروں
کے درمیان رکھ کر کوٹنا تاکہ وہ باریک ہو جائے۔
رَمِضَ ۔ رَمَضًا النہارُ: دن کا بہت گرم ہونا۔۔
ت الشمسُ: ریت وغیرہ پر تیز دھوپ کا پڑنا۔۔
الرجلُ کے پاؤں گرم زمین سے جلنا۔۔ الطائرُ:
پیاس کی شدت سے پرندے کے پیٹ کا گرم ہونا۔
ت عینُہُ: گرم ہو کر کی آنکھ کا جلنے کے قریب ہونا۔
۔۔۔ للامر: پر غصہ میں آگ بگولا ہونا۔رَمَّضَ
الغنمَ: بکریوں کو سخت گرم زمین میں چرانا۔اَرْمَضَ
الغنمَ: بکریوں کو سخت گرم زمین میں چرانا۔۔۔
الشیءَ: کو جلانا۔۔ الرجلَ: کو دکھ دینا۔۔
الحرُّ القومَ: گرمی کا تیز ہو کر لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔
۔۔۔ الامرُ فلانًا: معاملہ کا کسی کو آگ بگولا کر دینا۔
ترَمَّضَ الصیدَ: کو سخت گرمی میں شکار کرنا۔اِرْتَمَضَ
من الحزن: غم سے جلنا۔۔ لفلان: کے لئے غم
زدہ ہونا۔الرَمَض (مص): گرمی کی جلن، خریف
سے پہلے کی بارش جو زمین کو گرم اور جلتی پائے۔
الرَمَضِیّ من السحاب و المطر: گرمی کے آخر
اور خریف کے ابتداء کی بارش۔الرَمِیض و الرَمِیضَة
من النصال: تیز بھالا۔رَمَضَان جمع رَمَضانات
و رَمَاضِین و اَرْمِضَاء و اَرْمِضَة: ماہ رمضان
(نواں قمری مہینہ) یہ مسلمانوں کا روزے رکھنے کا
مہینہ ہے۔الرَمْضَاء: گرمی کی شدت، سورج کی
گرمی کی شدت سے گرم زمین۔الرَمَاضَة: واقعہ کی
حدت وشدت۔
۲۔ رَمَّضَ الصومَ: روزہ کی نیت کرنا۔۔۔ الرجلَ:
کا تھوڑا سا انتظار کر کے چل پڑنا۔
۳۔ترَمَّضَ تْ نفسُہُ: کا جی متلانا۔اِرْتَمَضَ تْ
کبدُہُ: کا جگر خراب ہونا۔
۴۔اِرْتَمَضَ تِ الفرسُ بہ: سے گھوڑے کا کودنا۔
○ اِرْتَمَضَ: رنج وغم سے جلنا۔رَمَض: پیاس سے
حلق میں کانٹے پڑ جانا، زمین کا گرمی کی شدت سے
جھلسنا۔رَمْضَاء: سورج سے تپی ہوئی زمین۔
اِسْتَجارَ مِن الرمضاء بالنار: آسمان سے گرا کھجور
میں اٹکا۔
رمط: رَمَطَ ۔ رَمْطًا ہُ: پر عیب لگانا، طعن وتشنیع کرنا۔
رمع: ا۔رَمَعَ ۔ رَمَعَانًا انفُہُ: کی ناک کا غصہ یا
بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا صفت: رَمِع۔۔ راسَہُ:
اپنے سر کو ہلانا۔۔ بیدہ: ہاتھ سے اشارہ کرنا۔۔
عینہ بالدموع کی آنکھ کا آنسو بہانا۔۔ رَمْعًا و
رَمَعانًا الرجلُ تیز چلنا۔ترَمَّعَ غصہ سے ہلنا،
کانپنا، لرزنا۔الرَامِع (فا): سر جھکا کر اٹھانے والا۔
الرَمَّاعة بچہ کا تالو جو حرکت کرتا ہے، دبر۔المُرَمَّعة:
بیابان۔کہا جاتا ہے: أتی بُرَمَّعَاتِ الاخبار: وہ
جھوٹی خبریں لایا۔الیَرْمَع جمع یَرَامِع: پھرکی،
سفید چمکتی ہوئی کنکریاں۔کہتے ہیں: ترکتہ یَفُتُّ
الیَرْمَعَ میں نے اس کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ غم
اور صدمہ سے چور چور تھا۔
۲۔رَمِعَ ت المرأة بالصبی عورت کا بچہ جننا۔
۳۔رُمِعَ الساقِی: ساقی کی پیٹھ یا پیٹ میں درد ہونا۔
اَرْمَعَ الساقی: بمعنی رُمِعَ الساقی۔الرُمَاع
(طب): پیٹھ کا درد، پیٹ کا درد۔
۴۔الرُمُعَة ... کہا جاتا ہے
گھاس کا کچھ حصہ۔
رمغ: رَمَغَ ۔ رَمْغًا الشیءَ: کو چمڑے کی طرح ہاتھ
سے ملنا۔۔ الطعامَ: کھانے کو سالن سے تر کرنا۔
۔۔۔ الکلامَ: گفتگو میں جھوٹ سچ ملا کر اس کو چھپا
کرنا۔رَمَّغَ راسَہُ: سر میں تیل لگانا۔
رمق: ا۔رَمَقَ ۔ رَمْقًا ہُ: پر اچٹتی نظر ڈالنا، کو دیر تک
دیکھنا۔رَمَّقَ: دیر تک دیکھتا رہنا۔رَامَقَ مُرامقةً
الرجلَ: کا نظر سے تعاقب کرنا اور اس سے بچنے کی
کوشش کرنا، کی برائی سے بچنے کے لئے اس کے ساتھ
خاطر ومدارات سے پیش آنا۔الرِمَاق: دشمنی کی
ترچھی نظر سے دیکھنا۔الرَامِق و الرَمُوق جمع
رُمُق: حسد کرنے والا۔المُرَامِق: بد خلق۔
الیَرْمُوق: کمزور نظر شخص۔
۲۔رَمَّقَ ہُ بالشیء: کے آخری سانس کو کسی شئے سے بچا
لینا۔۔۔ العملَ: کسی کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔
رَامَقَ مُرامقةً العملَ: کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔کہا
جاتا ہے: ھذہ النخلة تُرَامِقُ بِعِرقٍ: کھجور کا یہ
درخت نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ترَمَّقَ الماءَ او
اللبنَ: پانی یا دودھ کو تھوڑا تھوڑا پینا۔اِرْمَقَّ: پتلا
ہونا، باریک ہونا۔۔ الشیءُ: کمزور ہونا۔اِرْمَاقَ:
پتلا ہونا، باریک ہونا۔۔ الشیءُ: کمزور ہونا۔۔
الرجلُ: لاغری سے ہلاک ہونا۔الرَمَق جمع
أَرْمَاق: زندگی کے آخری سانس۔۔ مِن العیش:
کم سے گزارہ جس سے آخری سانس باقی رہ سکے۔کہا
جاتا ہے: سَدَّ رَمَقَ الجَائِعِ: کو کھلا کر بھوک کی
موت سے بچانا۔عیشٌ رَمِقٌ و رِمَاقٌ: تنگدستی کی
زندگی، تنگ گزران۔رجلٌ رُمَّقٌ: کمزور آدمی۔
الرَامِق و الرَمُوق جمع رُمُق: فقیر۔الرُمْقَة و
الرَمَاق و الرِمَاق من العیش: بہت قلیل گزارہ
جس سے انسان صرف زندہ رہ سکے، قوت لایموت۔
المُرْمَقُ و المُرَمَّقُ العیش: تنگ گزران والا
آدمی۔المُرامِق: بے مہر۔
۳۔رَمَّقَ الکلامَ: کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔
الرِماق: نفاق، منافقت۔
۴۔اِرْمَقَّ الطریقُ: راستہ دراز ہونا۔
۵۔الرَمَق: بکریوں کا ریوڑ، گلہ (فارسی رَمہ سے معرب
ہے)۔
○ رَمَقَ ۔ رَمْقًا ہ/ ہ: کو دیکھنا، پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا،
چھچھلتی ہوئی نظر ڈالنا، کو غور سے دیکھنا، کی طرف
دیکھنا۔رَمَّقَ ہ/ ہ: کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، گھورنا۔
ہ: کوئی کام بے توجہی اور غفلت سے کرنا، کام

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بھونڈے پن سے کرنا۔ ــ ہ: کو بمشکل زندہ رکھنا۔
تَـرَمَّق ہ: کسی موقع وغیرہ کا منتظر رہنا۔ رَمَق جمع اَرْمَاق: زندگی کا سانس، زندگی کا آخری شعلہ۔ سَدَّ رَمَقَهُ: کو بمشکل زندہ رکھنا، مشکل سے گزارہ کرنا، زندہ رہنے کی تگ ودو کرنا، کو بمشکل زندہ رکھنا، کی بھوک مٹانا۔ عَلَى آخِرِ رَمَقٍ: قریب المرگ، ختم ہی ہونے والا۔ مَـرْمُـوق: جس کی طرف دیکھا گیا ہو، ٹکٹکی باندھکر دیکھا ہوا، مشہور، اہم، دلچسپی کا، قابل ذکر، قابل توجہ، ممتاز، نمایاں، غیر معمولی، معنی خیز، مغرور، متکبر۔

رملك: ۱۔ رَمَكَ ـُ رُمُوكًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ــ تِ الابلُ على الماء: اونٹوں کا پانی پر پڑاؤ کرنا۔ اَرْمَكَ هُ بالمكان: کو کسی جگہ ٹھہرانا۔
۲۔ اِرْمَكَّ اِرْمِكَاكًا: دبلا پتلا ہونا۔ رَجُلٌ رَمَكَةٌ: کمزور آدمی۔
۳۔ اِرْمَكَّ اِرْمِكَاكًا البعيرُ: اونٹ کا خاکستری رنگ کا ہونا۔ صفت: اَرْمَك مؤنث رَمْكَاء جمع رُمْك۔ الرُّمْكَة: اونٹوں کا خاکستری رنگ۔
۴۔ اِسْتَرْمَكَ القومُ: حسب میں کھوٹ رکھنا، عیب دار ہونا۔ الرَّمَكَة جمع رَمَك و رِمَاك و رَمَكَات و اَرْمَاك (ح): گھوڑی یا وہ گھوڑی جو نسل چلانے کے لئے رکھی جائے۔ الرَّامِك و الرَّامَك: ایک قسم کی خوشبو۔ بعض کے نزدیک سیاہ رنگ کی چیز جو خوشبو میں ملائی جاتی ہے۔

○ اَرْمَك مؤنث رَمْكَاء: خاکستری رنگ کا۔ رَمَكَة جمع رَمَكَات و رِمَاك و اَرْمَاك: گھوڑی۔

رمل: ۱۔ رَمَلَ ـُ رَمْلًا الطعامَ: کھانے میں ریت ملانا۔ رَمَّلَ الخطَّ: لکھے ہوئے پر خشک کرنے کے لئے ریت ڈالنا۔ الرَّمْل جمع رِمَال و اَرْمُال (ط ا): ریت۔ رَمْلَة: ریت کا ساٹ۔ علمُ الرَّمْل: ایک علم جس میں ریت پر لکیریں کھینچ کر آئندہ کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ یہ خرافات میں سے ہے۔ الرَّمْلَة: (زمین کا وہ قطعہ جس پر) ریت کا ٹیلہ (ہو)۔ الرَّمَّال: ریت بیچنے والا۔ المُرْمِل و المُرَمِّل (ح): شیر۔
۲۔ رَمَلَ ـُ رَمْلًا النسيجَ: کپڑا باریک بننا۔ رَمَّلَ النسيجَ: بمعنی رَمَلَ النسيجَ۔ اَرْمَلَ النسيجَ: کپڑا باریک بننا۔
۳۔ رَمَلَ ـُ رَمْلًا السريرَ: تخت کو جواہر وغیرہ سے سجانا۔ ــ الكلامَ: کلام کو جھوٹا قرار دینا۔ گھٹیا قرار دینا۔
۴۔ رَمَلَ ـُ رَمْلًا الثوبَ بالدم: کپڑے کو خون سے لتھیڑنا۔ رَمَّلَ الثوبَ بالدم: کپڑے کو خون میں لتھیڑنا۔ اَرْمَلَ السهمُ بالدم: تیر کا خون سے لتھڑنا۔ تَرَمَّلَ و اِرْتَمَلَ بالدم: خون سے لتھڑنا۔
۵۔ رَمَلَ ـُ رَمْلًا و رَمَلَانًا و مَرْمَلًا: کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا۔
۶۔ رَمَّلَتِ المرأةُ من زوجها: عورت کا بیوہ ہونا، رانڈ ہونا۔ اَرْمَلَتِ المرأةُ: عورت کا بیوہ ہونا، رانڈ ہونا۔ ــ القومُ: قوم کی خوراک یا توشہ کا ختم ہو جانا، فقیر ہونا۔ ــ القومُ زادَهم: قوم کا توشہ ختم ہونا۔ تَرَمَّلَتِ المرأةُ: عورت کا بیوہ ہونا، رانڈ ہونا۔ الرَّمَل: تھوڑی سی بارش۔ الأَرْمَل جمع اَرَامِل و اَرَامِلَة مؤنث اَرْمَلَة: رنڈوا، مسکین۔ عَامٌ اَرْمَل: کم بارش اور نفع والا سال۔ سَنَةٌ رَمْلَاء: کم بارش اور نفع والا سال۔ الأَرْمَلَة جمع اَرَامِل: بیوہ محتاج اور کمزور لوگ۔
۷۔ اَرْمَلَ الحبلَ: رسی دراز کرنا۔ الرَّمَل: زیادتی (کسی شئے میں)۔
۸۔ الرَّمَل: علم عروض کی ایک بحر کا نام، جس کا وزن ہے: فاعِلاتُنْ فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ (مو): فن موسیقی کا ایک راگ، نیل گائے کی ٹانگوں میں دھاریاں جو جسم کے دوسرے حصوں کے رنگ سے مختلف ہوں۔ الرُّمْلَة جمع رُمَل و اَرْمَال: سیاہ دھاری۔ اُمُّ رِمَال (ح): بجو۔ نعجةٌ رَمْلَاءُ: بھیڑ جس کی ٹانگیں سیاہ رنگ کی ہوں، جب کہ باقی جسم سفید ہو۔ المِرْمَل: چھوٹی بیٹری۔

○ رَمَّلَ ہ: پر ریت چھڑکنا (سیاہی خشک کرنے کے لئے)۔ اَرْمَلَ و تَرَمَّلَ: رنڈوا یا بیوہ ہو جانا۔ رَمْل جمع رِمَال: ریت۔ علم الرمل یا ضربُ الرمل: علم الاعداد، جفر، علم رمل۔ رمل (ریت میں لکیریں یا نشان بنا کر غیب کا حال بتانا)۔ رَمْلِي: ریتلا، ریت کا، بالو کے رنگ کا، مٹیالا، زردی مائل، ریگ مثانہ کا، ریگستانی۔ ساعة رملية: ریت گھڑی۔ رَمَل: علم عروض کی ایک بحر کا نام۔ رَمَّال: زائچہ دان، رمل کا جاننے والا، علم جفر کا ماہر، رمال۔ اَرْمَل جمع اَرَامِل: رنڈوا۔ اَرْمَلَة جمع اَرَامِل و اَرَامِلَة: بیوہ۔ مِرْمَلَة: کھلی جگہ جس کے کچھ حصہ میں بچوں کے کھیلنے کے لئے ریت ہو۔ تَرَمُّل: بیوگی، رنڈوا پن۔

رمن: الرُّمَّان واحد رُمَّانَة (ن): انار، انار کا درخت۔ الرُّمَّانَة: ناف اور اس کے آس پاس پیٹ کا حصہ۔ (ا ع): انار (آتش بازی والا)۔ المَرْمَنَة: انار اگنے کی جگہ۔

○ رُمَّان واحد رمّانہ: انار، انار کا درخت، گرہ، گانٹھ۔ رُمَّانة يدوية جمع رمانات يدوية: دستی بم (hand grenade)۔

○ ارمن و ارمنی: الأَرْمَن: آرمینیا کے باشندے۔ ارمنی: آرمینیا کا، آرمینیا کا باشندہ۔

○ اَرْمِينِيَا: آرمینیا (ملک)

رمه: رَمِهَ ـَ رَمَهًا اليومُ: دن کی گرمی کا شدید ہونا، دن کا سخت گرم ہونا۔

رمی: ۱۔ رَمَى ـِ رَمْيًا و رِمَايَةً الشيءَ او بالشيء: کو پھینکنا۔ کہا جاتا ہے: رمى السهم عن او على القوس: اس نے کمان سے تیر پھینکا۔ رَمَى بحبله على غاربه: اس نے اس کی رسی اسکے کندھے پر رکھ دی یعنی اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو چاہے سو کرے۔ ــ هُ بكذا: پر کوئی عیب لگانا، پر کوئی تہمت لگانا۔ ــ به على البلد: کو کسی شہر پر والی یا حاکم بنانا۔ ــ المكانَ او الشيءَ و اليه: کسی جگہ یا چیز کا قصد کرنا۔ ــ اللّٰهُ لَهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی مدد کرنا۔ رَامَى مُرَامَاةً و رِمَاءً و تَرْمَاءً هُ: ایک دوسرے کو تیر مارنا، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کو طاقت سے روکنا۔ ــ عن قومه: اپنی قوم کا دفاع کرنا، اپنی قوم کے لئے جدوجہد کرنا۔ اَرْمَى اِرْمَاءً الشيءَ مِن يده: کو ہاتھ سے پھینکنا۔ ــ هُ عن فرسه: کو گھوڑے کی پیٹھ سے گرانا۔ ــ تْ بِهِ البلادُ: کو وطن سے نکال دینا۔ تَرَمَّى: تیر پھینک کر شکار کرنا۔ تَرَامَى تَرَامِيًا القومُ: ایک کا دوسرے پر تیر مارنا یا پتھر برسانا۔ ــ تْ به البلادُ: کو وطن سے نکال دینا۔ ــ الامرُ: کام میں تاخیر ہونا۔ کہا جاتا ہے: ترامى امره اِلى الظَفرِ او الخذلان: کا معاملہ، کامیابی یا مایوسی پر منتج ہوا۔ اِرْتَمَى اِرْتِمَاءً: پھینکا جانا۔ کہا جاتا ہے: رَمَاهُ فَارْتَمَى: اس نے اسے پھینکا تو وہ پھینکا گیا۔ ــ الصيدَ: شکار کو تیر مارنا۔ ــ تْ به البلادُ: کو وطن سے نکال دینا۔ اِرْتَمَيَا: ایک کا دوسرے پر تیر مارنا یا پتھر برسانا۔ رَمْيُ المِطْرَقَةِ (ا ع): توپ خانہ کا ایک نشانہ پر گولے برسانا۔ الرِمَى: پتھر پھینکنے کی آواز۔ الرَمْيَة: ایک دفعہ کا تیر پھینکنا۔ کہتے ہیں: رَمْيَةٌ من غير رامٍ: غیر متوقع یا غیر مستحق کامیابی۔ الرامى جمع رُمَاة

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

و رامُون (فا): تیرانداز (فلک) ایک ستارے کا نام۔ الرَمِی جمع اَرْمَاء واَرْمِیَة و رَمَایا: بہت سخت بارش برسانے والا بادل۔ الـرَمِیَّة جمـع رَمَایَا: شکار جس پر تیر پھینکا جائے۔ الـمَرْمَی (مص میمی) جمع مَرَامٍ: تیر پھینکنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: هذا الكلام بعيد المَرامِيّ: یہ ایک دور رس کلام ہے۔ ماابْعَدَ مَرْمَى هِمَّتِه: اس کی ہمت کا میدان کتنا وسیع ہے۔ لَهُ هِمَّةٌ قَصِيَّةُ المَرمَى: اس کی ہمت دور تک پہنچنے والی ہے۔ المِرْمَى جمع مَرَامٍ: تیر پھینکنے کا آلہ۔ المِرْمَاة: چھوٹا کمزور تیر، کھر۔

۲۔ رَمَى - رَمْيًا و رِمَايَةً على الخمسين: پچاس سے زیادہ ہونا۔ — المالُ: مال بہت ہونا۔ اَرْمَى على الخمسين: پچاس سے زیادہ ہونا۔ تَرَامَى الشَّيءُ: چیز کا لگاتار رہنا۔ کہا جاتا ہے: مَـازَالَ الشرُّ يترامى بينهم: شر ان کے درمیان برابر جاری رہا۔ — السحابُ: بادلوں کا ایک دوسرے سے ملنا۔ الرَمِيَّة: زیادتی۔ کہا جاتا ہے: في هذا رَمِيَة عَمَّا قِيلَ لي: جو مجھ سے کہا گیا اس میں اس سے زیادتی ہے۔ هو صاحبُ رَمْيِةٍ: وہ باتوں میں زیادتی کرتا ہے۔ الرَمَاء: زیادتی، سود۔

۳۔ الرَامِي او قَتْبُ سِيام (ن): سن، پٹ سن۔

○ رَمَى - رَمْيًا و رِمَايَةً ه/ب: کو پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا، زور سے پھینکنا، بے پروائی سے پھینکنا، بے کار سمجھ کر پھینک دینا، پرے رکھ دینا، چھوڑنا، ترک کرنا۔ — ہ ب: پر سے گولی چلانا، فائر کرنا، پر کا الزام لگانا، پر کی تہمت لگانا، کو کے لئے قصور وار ٹھہرانا، کی پر ملامت کرنا۔ — الِی: کا نشانہ باندھنا، کا مطلب یا منشا ہونا، کا ذہن میں واضح خیال، ارادہ وغیرہ رکھنا، غرض ہونا، مقصد ہونا، کا ارادہ ہونا، کے درپے ہونا۔ — بين: کے مابین اختلاف رائے یا نزاع کا بیج بونا۔ رَمَـاه بِطَلَقٍ نَارِيٍ: پر گولی چلانا۔ رمى بالغيب: غیب دانی کرنا۔ — تَرَامَى: ایک دوسرے پر کوئی چیز پھینکنا، اپنے آپ کو زمین پر گرانا، جھکانا، زمین پر گرنا۔ — على: اپنے آپ کو پر گرانا، پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا — في: اپنے آپ کو میں گرانا، میں یکایک کود پڑنا، میں اندھا دھند کود پڑنا۔ تَرَامَى: وسیع و عریض ہونا، دور تک پھیلنا، اطلاع، رپورٹ، (خبر وغیرہ) آنا، پہنچنا۔ الي: کسی شخص تک۔ تَرَامَى على قدميه: کے قدموں پر گر پڑنا۔ تَرَامَى بين ذِرَاعَيْهِ: کے بازوؤں میں آ پڑنا۔ عاطفة ترامى به عَهْدُها: ایک احساس جسے اس نے عرصہ دراز پہلے جانا تھا۔ تَرَامى الينا أن: ہمیں خبر ملی ہے کہ...... اِرْتَمَى على: خود کو (بستر، زمین پر گرانا)۔ — على: کسی پر گر پڑنا، پر اپنے آپ کو پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا۔ — في: اپنے آپ کو میں گرانا، میں اچانک یا یکایک کود پڑنا۔ —: منہ کے بل گرا ہونا۔ — على: پر پاؤں پسار کر بیٹھنا یا لیٹنا۔ ارتمى إلى الأرض: زمین پر گر پڑنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا۔ رَمْـي: پھینکنے، پٹکنے، پٹخنے وغیرہ کا عمل، تیر چلانا، بندوق چلانا، گولی مارنا۔ رميُ الحَرْبة: نیزہ اندازی۔ رَمْيُ القُرْص: چکر پھینکنا۔ اعدام رَمْيًا بالرصاص: گولی مار دستہ کے سامنے گردن زدنی۔ رَمْيَة: گھوڑے پر سے گرنا یا گرانا، پچھاڑنا یا پچھڑنا، پھینکنا، اچھالنا، پٹکنا، پٹخنا، فائر، گولی چلنا یا چلانا۔ رُبَّ رميه من غير رامٍ: کئی نیزہ یا تیراندازیاں کسی ماہر نشان باز کے بغیر ہوتی ہیں۔ رَمِيَّة جمع رَمَايَا: شکار کا جانور جو یا تو پہلے مارا جاچکا ہو یا جس پر فائر کیا جائے۔ مَرْمًى جمع مَـرَامٍ: نشانہ، مقصد، غرض، گول (goal)، (بندوق کی) مار، پہنچ، رسائی، حد۔ حـارِسُ الـمَـرْمَـى: گول کیپر۔ مَرْمَى النظر: تصور کی رسائی، تصور کا میدان۔ تَـرَامٍ: پھیلاؤ، وسعت۔ تَـرَامِـي الأطـــراف: دور تک پھیلی ہوئی وسعت، پھیلاؤ۔ رَامٍ جـمـع رُمَـاة: پھینکتا ہوا، پھینکنے والا، زور سے پھینکنے والا، نشانہ باز، رائفل بردار۔ الرَامِي: برج قوس، نواں برج۔ سهمُ الرامي: تیر کی شکل کا ایک شمالی برج۔ رامـيُ اللـهيـب: ایک ہتھیار جو جلتے ہوئے ایندھن کی دھار پھینکتا ہے۔ Flame thrower۔ مُتَـرَامٍ: دور، دور تک پھیلا ہوا۔ مُتَرَامِيُ الاطراف: دور تک پھیلا ہوا عظیم، جسیم، بڑا۔ رَامِيَة: چینی پٹ سن۔

رن: ا۔ رَنَّ - رَنِينًا و اَرَنَّ: بلند آواز سے رونا۔ — القوسُ: کمان کا آواز کرنا۔ رَنَّنَ ترنينًا و تَرْنِينَةً: چیخنا، چلانا۔ — القوسَ: کمان سے آواز نکلوانا۔ الـرَنَـن: گرمی کے موسم میں پانی میں بولنے والا ایک جانور۔ الـــرَنَّة: آواز، کمان کی آواز خاص طور پر۔ الرَنِين: آواز، غمگین آواز۔ قوسٌ مُرِنَّة و مِرنان: بہت بجنے والی یا بہت آواز کرنے والی کمان۔

۲۔ رَنَّ - رَنِينًا و اَرَنَّ اليه: کسی کی طرف کان لگانا۔ و اِسْتَرَنَّ لِكذا: سے کھیلنا، شغل کرنا، سے دل بہلانا۔

۳۔ الرَنَن: تھوڑا پانی۔ الرُنِّي: تمام مخلوق۔

○ رَنَّ — رَنِينًا: ... چیخنا، چلانا، گریہ وزاری کرنا، کرنا، بجنا، گونجنا۔ رَنَّة جمع رَنَّات: زور کی چیخ، آواز، گونج، باز ارتعاش، صدائے بازگشت۔ رَنِين: ماتم، گریہ زاری، آواز، باز ارتعاش، گونج، صدائے بازگشت، بجنا، کھنک۔ رَنَّان و مِرْنَان: بجتا ہوا، گونجتا ہوا، گونج پیدا کرنے والا، گونج دار، گونجنے والا، آواز کا لوٹانے والا۔ رَنَّانَة: سر ملانے کا دوشاخہ، سرودشاخہ۔

رنأ: رَنَأَ - رَنْأً: آواز کرنا۔ — اليه: کی طرف دیکھنا۔ — في مشيته: سست چلنا۔

رنب: الأَرْنَب جمع أَرَانِب (ح): خرگوش (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے) یہ جانور بزدلی میں ضرب المثل ہے، ایک قسم کا زیور۔ — واليَرْنَب (ح): چھوٹی دم کا ایک جنگلی چوہا۔ الأَرْنَبَة جمع اَرَانِب: ارنب کا واحد، ایک خرگوش، ناک کا سرا۔ کہتے ہیں: جَدَعَ فلانٌ ارنبةَ فلان: فلاں شخص نے فلاں شخص کی ناک کاٹ ڈالی یعنی اسے بہت ذلیل و رسوا کیا۔ نسيجٌ مُؤَرْنَبٌ و مُرْنَبٌ: وہ کپڑا جس کی بناوٹ میں خرگوش کی اون شامل ہو۔ ارضٌ مُرْنِبة و مُؤَرْنِبَةٌ و مُؤَرْنَبَةٌ: وہ زمین جس میں خرگوش بہت ہلیں۔ كساءٌ مُرْنَبَانِيٌّ: خرگوش کے رنگ کا لباس۔

○ اَرْنَب مونث جمع ارانب: بڑا خرگوش، خرگوش۔ اَرْنَبٌ هِنْدِيّ: امریکی چوہا (guineapig)۔ اَرْنَبَة: مادہ خرگوش، ہرنی۔ ارنبة الانف: ناک، ناک کا سرا، ناک کی نوک، (جانور کی) تھوتھنی۔

رنح: ا۔ رَنَّحَ تَرْنِيحًا ہ: کو کمزور کرنا۔ کہا جاتا ہے: ضربتُهُ حتى رَنَّحْتُهُ: میں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بیہوش ہو گیا۔ — تِ الريحُ الغُصنَ: ہوا کا ٹہنی کو جھکانا۔ رُنِّحَ عليه: بھاگنے، خوف یا غم کی وجہ سے سست و کمزور ہو کر خمیدہ ہو جانا۔ صفت: مُرَنَّح: پر غشی طاری ہونا۔ تَرَنَّح و اِرْتَنَح: نشہ وغیرہ کی وجہ سے جھک جانا۔ الرُنَح: دوران سر، چکر۔

۲۔ تَرَنَّح و اِرْتَنَحَ عليه: سے گستاخی کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَرَنَّحَ بالكلام عليَّ جهلاً: اس نے جہالت سے میرے ساتھ گستاخی کی۔

۳۔ المُرَنَّحة: جہاز کا اگلا حصہ۔

○ رَنَّحَ ہ: کو سرگراں کرنا، لڑکھڑانا، ڈگمگانا، بوکھلا دینا، چکرا دینا، بدحواس کر دینا۔ — ہ: کو ہلانا جلانا۔ رَنَّحَ اَعْطَافَهُ: کے احساسات کو ہیجان میں لانا، ابھارنا، کو ہیجان زدہ کرنا۔ تَرَنَّحَ: لڑکھڑانا، ڈگمگانا، لڑکھڑا کر چلنا، چکرانا، گرنے کو ہونا، ہلنا جلنا، جھولنا، کانپنا۔ تَرَنَّحَتْ اعطافُه: سستی اور ہچکچاہٹ کے بعد کوئی کام اعتماد اور تیزی سے کرنے لگنا، وجد کی حالت میں

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہو جانا، بے خود ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا۔
مُرَنَّحَة: جہاز وغیرہ کا اگلا حصہ۔

رنخ: رَنَخَ ـ رَنْخًا: سست ہونا۔رَنَّخَ ہٗ: کولا ڈے سے بگاڑنا، کی حد سے زیادہ ناز برداری کرنا، کو بگاڑنا، کی عادتیں خراب کرنا۔تَرَنَّخَ بہ: کسی چیز سے چمٹنا، لٹکنا۔عام لوگ کہتے ہیں:تَرَنَّخَ فلانٌ: فلاں شخص کو بارش نے بھگو دیا۔

رند: الرَّنْد (ن): آس کے مشابہ ایک قسم کا خوشبودار پودا، کھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی گون۔
ت رَنْدَحَ: (شعر) کی تقطیع کرنا۔

رنع: ا۔رَنَعَ ـ رُنُوعًا: لاغر و دبلا ہونا۔ــ لونُہٗ: کا رنگ متغیر ہونا۔
۲۔رَنَعَ ـ رُنُوعًا تِ الدَّابَّةُ: جانور کا سر سے مکھیاں اڑانا۔ــ الرجلُ: کھیلنا۔رَنَعَ رأسَہٗ: اپنے سر کو ہلانا۔المَرْنَعَة: کھیل میں آوازیں۔
۳۔المَرْنَعَة: کشادگی، وسعت، باغ، ارزانی و فراخی۔کہا جاتا ہے:اِنَّ فی المرنعۃِ لِکلِّ قومٍ مَقْنَعَۃً: ہر قوم کے لئے ارزانی و فراخی میں دولت ہے۔

رنف: ا۔اَرْنَفَ البعیرُ: اونٹ کا چلتے ہوئے سر ہلانا۔ــ الرجلُ: تیز چلنا۔
۲۔اَرْنَفَ تِ الناقۃُ بِاُذُنَیْھا: اونٹنی کا تھکن کی وجہ سے کان ڈھیلے کرنا۔الرَّانِف: انسان کا ڈھیلا سرین۔ــ من کل شیءٍ: ہر چیز کا کنارا، سرا۔الرَّانِفَة جمع رَوَانِف: ناک کا کنارا، کان کی نرم ہڈی کا کنارا، سرین کا وہ حصہ جو بیٹھتے وقت زمین پر لگتا ہے۔ــ من الکُمِّ: آستین کا سرا۔کہا جاتا ہے:عَلَوْا رَوَانِفَ الآکامِ: وہ ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔

رنق: ا۔رَنَقَ ـ رَنْقًا و رُنُوقًا و رَنِقَ و رَنُقَ ـ رَنَقًا الماءُ: پانی کا گدلا ہونا۔صفت:رَنْق و رَنِق و رَنَق: رَنَّقَ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔اَرْنَقَ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔تَرَنَّقَ الماءُ: پانی کا گدلا ہو جانا۔الرَّنْق (مص): گدلا پانی، جھوٹ۔الرَّنْقَة جمع رِنَاق: مٹی ملا ہوا پانی یا حوض میں تھوڑا سا بچا ہوا گدلا پانی۔التَّرْنُوق و التُّرْنُوق و التَّرنوقاء: نہروں کا کیچڑ، پانی کے بہاؤ میں خشک شدہ مٹی۔
۲۔رَنَّقَ الماءَ: پانی کو صاف کرنا۔الرَّوْنَق: چمک دمک حسن و زیبائش۔
۳۔رَنَّقَ الطائرُ: پرندے کا بغیر اڑے بازوؤں کو پھڑپھڑانا۔ــ اللواءُ: جھنڈے کا ہلنا۔ــ تِ السفینۃُ: کشتی کا اپنی جگہ گھومنا اور نہ چلنا۔ــ الرجلُ: حیران ہونا۔ــ النظرَ الیہ: کو دیر تک دیکھنا۔ــ اللواءَ: ہلنے کے لئے جھنڈے کو جنبش دینا۔
۴۔رَنَّقَ القومُ بالمکانِ: لوگوں کا کسی جگہ اقامت کرنا، ٹھہرنا۔کہا جاتا ہے:رَنِّقْ ولا تَعْجَلْ: ٹھہر اور انتظار کر۔الرَّنْقَاء جمع رَنْقَاوَات مِنَ الطیر: انڈوں پر بیٹھا ہوا پرندہ عام لوگ اسے القرقۃ کہتے ہیں۔
۵۔رَنَّقَ النومُ فی عَیْنَیْہِ: نیند کا آنکھوں میں بھر آنا۔ــ تِ المَنِیَّۃُ منہ: موت کا کسی کے قریب ہونا۔
۶۔رَنَّقَ جناحُ الطائرِ: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرنا۔ــ تْ عَیْنَاہُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پست ہونا۔ــ جِسْمُہٗ او رأیُہٗ: کمزور جسم یا رائے ہونا۔اَرْضٌ رَنْقَاءُ جمع رَنْقَاوَات: بنجر زمین۔
ت رَنَّقَ ہٗ: پانی کو گدلا کرنا، (نیند کا) (آنکھوں) کو دھندلا کرنا، دھندلانا۔ــ: ٹھہرنا، قیام کرنا، رکنا۔ــ نحو: کو یا کی طرف دیکھنا، پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، پھسلتی ہوئی نظر ڈالنا۔رَنَّقَ النظرَ اِلی: کی طرف دیکھتا رہنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔دَنْق: گدلا (پانی)۔رَوْنَق: سحر، دلربائی، کشش، چمک دمک، آب و تاب، حسن، خوبصورتی۔

رنك: الرَّنْك: شاراتُ الرنك: رتبہ کے نشان جو چھوٹی ڈھالوں یا اشراف کے محلوں کی دیواروں پر بناتے تھے۔الرَّنْكَة (ح): بحر اوقیانس شالی میں پائی جانے والی ایک قسم کی مچھلی، جس کا شکار رود بار انگلستان میں کیا جاتا ہے۔

رنم: رَنِمَ ـ رَنِيمًا و رَنَمًا و تَرَنَّمَ: خوش آوازی سے گانا۔الرَّنَم و الرَّنَمَة (مو): آواز، راگ، ترنم۔الرُّنُم: خوش آواز گانے والیاں (کہا جاتا ہے:عُودٌ رُنُمٌ: خوش آواز بربط) ہوشیار چھوکریاں۔الرَّنَمَة: ایک قسم کی نباتات۔التَّرْنِيمَة (مو): گیت، ترانہ، حمد، بھجن۔
ت رَنَّمَ و تَرَنَّمَ بـ: (کوئی گیت) گانا، (گیت) لحن سے پڑھنا، خاص لہجہ میں ادا کرنا، گا کر ادا کرنا، کوئی چیز یکساں لہجہ سے زبانی پڑھنا، (کوئی چیز) گنگنانا، الاپنا۔تَرْنِيمَة: حمد، بھجن، ترانہ، گیت، ایک قسم کا گنگنانا کلام سنانا، چھوٹا قصہ جو یکساں آواز میں پڑھا جائے، چھوٹا گیت۔

رنا: ا۔رَنَا ـ رُنُوًّا و رَنًا الیہ و لہٗ: کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنا۔رَنَّی الحسنُ فلانًا: حسن کا کسی کو تعجب میں ڈال کر دیکھنے پر اکسانا۔رَانَی ہٗ: کا مقابلہ کرنا (جیسے یہ کہنا:لہٗ شرفٌ یُرانی الکواکبَ: وہ شرف میں ستاروں سے مقابلہ کرتا ہے یعنی ستاروں سے زیادہ لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے) کی مدارات کرنا۔اَرْنَی الحسنُ فلانًا: حسن کا کسی کو تعجب میں ڈال کر دیکھنے پر اکسانا۔ــ ہٗ اِلی الطاعۃ: کو اطاعت پر لگانا اور پھر اس کا اطاعت پر ہمیشگی اختیار کرنا۔تَرَنَّی: محبوب کی طرف مسلسل دیکھنا۔
الرَّنَا (مص): وہ خوبصورت چیز جس کو دیر تک دیکھا جائے، خوبصورتی، حسن، جمال۔الرَّنَاء و الرَّنُوّ: خوبصورت چیز کی طرف پسند و حیرت کی نظر سے دیکھنے والا۔کہا جاتا ہے:ھو رَنُوُّ الأمانی: وہ ایسی خواہشات والا ہے جس کی اسے توقع ہے۔
۲۔رَنَا ـ رُنُوًّا و رَنًا الرجلُ: دل کی مشغولی اور خواہشات کے غلبہ کے ساتھ کھیل کود میں لگنا۔رَنَّی تَرْنِیَۃً: گانا۔ــ الیہ: کا مشتاق ہونا۔الرُّنَاء: خوبصورت آواز، طرب۔
۳۔رَنَا ـ رُنُوًّا و رَنًا و تَرَانَی عنہ: سے غافل ہونا، پر توجہ نہ دینا، میں دلچسپی نہ لینا، سے بے سروکار ہونا۔
ت رَنَا ـ رُنُوًّا اِلی: کی طرف دیکھنا، کو گھورنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔رَنَّی و اَرْنَی ہٗ: کو پسند آنا، کو بہت اچھا لگنا، کو خوش کرنا، مسرور، شاد یا محظوظ کرنا۔

رھب: ا۔رَھِبَ ـ رَھْبَۃً و رُھْبًا و رَھْبًا و رَھَبًا و رُھْبَانًا و رَھَبَانًا: ڈرنا۔کہا جاتا ہے:لم اَرْھَبْ بِكَ: میں نے تجھ میں کوئی پریشان کرنے والی بات نہیں دیکھی۔اَرْھَبَ ہٗ: کو خوف زدہ کرنا۔کہا جاتا ہے:اَرْھَبَ عنہ الناسَ بأسُہٗ و نجدتُہٗ: اس کی قوت اور شجاعت نے لوگوں کو اس سے ڈرنے پر اکسایا، ڈرا دیا۔تَرَھَّبَ: راہب ہونا، عابد ہونا۔ــ ہٗ: کو دھمکی دینا۔اِسْتَرْھَبَ ہٗ: کو خوف دلانا۔
الرَّھْبَة و الرُّھْبَی و الرَّھْبَی و الرَّھْبَاء: خوف، ڈر۔الرَّاھِب (فا) جمع رُھْبَان: ڈرنے والا، شیر، لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کے لئے گرجا میں عزلت نشین، راہب۔الرَّاھِبَة جمع رَاھِبَات و رَوَاھِب: راہب کا مؤنث، راہبہ، خوف دلانے کی حالت۔الرَّھِیب و المَرْھُوب: جس سے ڈرا جائے، خوفناک، شیر۔الرُّھْبَان جمع رَھَابِین مؤنث رُھْبَانَة جمع رُھْبَانَات: راہب۔الرَّھْبَان جمع رَھَابِین و رَھَابِنَة و رَھْبَانُون مؤنث رَھْبَانَة جمع رَھْبَانَات: بہت خوف کرنے والا۔الرَّھْبَنَة: راہبوں کا طریقہ اختیار کرنا۔الرَّھْبَانِیَّة و الرُّھْبَانِیَّة: راہبوں کا طریقہ۔الرَّھَبُوت و الرَّھَبُوتی: سخت خوف۔الإرْھَابِیّ: دہشت پسندانہ، دہشت پسند۔الحُکم الإرھابیّ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دہشت پسندی پر مبنی نظام۔ المَرَاھِب ہولناکیاں، خوفناکیاں۔

۲۔ رَھَبَ الجملُ: پیٹھ کی کمزوری کی وجہ سے اونٹ کا اٹھنے کی کوشش کرکے پھر بیٹھ جانا۔ رُھِبَتِ الناقۃُ سفر کا اونٹنی کو تھکا دینا صفت مذکر و مؤنث: رَھْبٌ جمع رِھَابٌ۔ اَرْھَبَ: تھکے ماندے اونٹ پر سوار ہونا۔ الرَھْب جمع رِھَاب من الابل: سفر سے تھکا ماندہ اونٹ، باریک پتلا پھل۔

۳۔ اَرْھَبَ: آستین لمبی کرنا۔ الرُھْب: آستین۔

۴۔ رَھْبَلَ: غیر مفہوم کلام کہنا۔

۵۔ تَرَھْبَلَ: تیز چال چلنا۔ الرَھْبَلَۃ: تیز چال۔

ⓒ رَھِبَ - رَھَبًا و رُھْبًا و رَھْبَۃً: خوف زدہ ہونا، ڈرنا۔ ـ ہ: سے ڈرنا، دہشت کھانا۔ رَھِبَ جانبہ سے ڈرنا۔ رَھَّبَ ہ: کو ڈرانا، خائف کرنا، دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا، دھمکانا۔ اَرْھَبَ ہ: کو ڈرانا، خائف کرنا، دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا، دھمکانا، خوف زدہ کرنا، دہشت پھیلا کر مرعوب کرنا۔ تَرَھَّبَ ہ: کو دھمکانا۔ ـ زاہد بن جانا، عابد بن جانا، جوگی بن جانا، درویش بنجانا، تارک الدنیا ہو جانا، راہب بن جانا، راہبانہ زندگی اختیار کر لینا۔ رَھْبَۃ: خوف، ڈر، ہول، دہشت ہیبت، رعب، جلال۔ رَھْبَی و رُھْبَی خوف، ڈر۔ رَھَبُوت: سخت خوف، دہشت، ہول، ہیبت۔ رَھِیب: بھیانک، خوفناک، مہیب، دہشتناک، ڈراؤنا، ہولناک، سنجیدہ، پر رعب باضابطہ۔ تَرْھِیب: دھمکی، ڈر۔ اِرْھَاب: دھمکی، ڈرانا، دھمکی دینا، دہشت، ہیبت، سخت خوف، دہشت پسندی، توڑ پھوڑ، تخریب کاری۔ اِرْھَابِی: دہشت پسندانہ، دہشت پسند، تخریبی، جمع اِرْھَابِیُّون: دہشت پسند۔ تَرَھُّب: رہبانیت، خانقاہی زندگی، راہبانہ زندگی۔ رَاھِبَۃ جمع راھبات: گوشہ نشین عورت، تارک الدنیا عورت، خانقاہ میں رہبانیت کی زندگی گذارنے والی عورت، بپتسما کرنے والی، نن (nun)۔ مَرْھُوب: ہولناک، خوفناک، دہشتناک، ناگوار۔

ⓒ تَرَھْبَنَ: زاہد بن جانا، عابد بن جانا، تارک الدنیا ہو جانا، جوگی بن جانا، درویش بن جانا، راہبانہ یا خانقاہی زندگی اختیار کر لینا۔ رَھْبَنَۃ و رَھْبَانِیۃ: رہبانیت، خانقاہی زندگی، راہبانہ نظام، عبادت گزاروں کا مجمع۔

رھج: اَرْھَجَ: غبار اڑانا۔ ـ بین القوم: لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔ ـ ت السماءُ: آسمان کا برسنے کے قریب ہونا۔ الرَھْج: اڑایا ہوا غبار۔ الرَھَج: اڑایا ہوا غبار، فتنہ وفساد، شور وشغب۔

واحد رَھَجَۃ: پانی سے خالی بادل۔ الرَھْوَجَۃ: ایک قسم کی چال۔

رھد: ا۔ رَھَدَ - رَھْدًا ہُ: کو بہت باریک پیسنا۔ رَھَّدَ: بڑی حماقت کرنا۔ الرَھِید: نرم و نازک، ارزان۔ رَھَادَۃُ العیش: زندگی کی خوشحالی۔ امْرٌ مَرْھُودٌ: غیر محکم امر۔ کہا جاتا ہے: ترکتھم مَرْھُودِینَ: میں نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ انہوں نے کسی معاملہ کا پختہ ارادہ نہیں کیا تھا۔ الرَھُودِیَۃ: نرمی، مہربانی۔

۲۔ رَھْدَنَ: دیر لگانا، رکنا۔ ـ فی مشیہ: چلنے میں گھومنا۔ الرَھْدَن و الرُھْدَن و الرِھْدَن جمع رَھَادِن و رَھَادِنَۃ: بزدل، احمق (ح) چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ۔ الرَھْدُون: بہت جھوٹا۔

رھر: ا۔ رَھْرَہَ رَھْرَھَۃً مائدتہُ: فیاضی سے دسترخوان کو پھیلانا اور فراخ کرنا۔ تَرَھْرَہَ جسمُہُ: آسودہ حالی کی وجہ سے کسی کے جسم کا سفید و نرم و نازک ہونا۔ جسمٌ رَھْرَہٌ و رَھْرَاہٌ و رُھْرُوہٌ: نرم و نازک اور سفید جسم۔

۲۔ تَرَھْرَہَ السرابُ: سراب کا برابر چمکنا۔ الرَھْرَھَۃ: چہرہ کی چمک دمک، خوشروئی۔ طستٌ رَھْرَہٌ و رَھْرَاہٌ چوڑا اتھلا طشت۔ ماءٌ رَھْرَاہٌ و رُھْرُوہٌ: صاف پانی۔

رھز: رَھَزَ - رَھْزًا و رَھَزَانًا: تردد کی حالت میں حرکت کرنا۔ اِرْتَھَزَ لِلأَمرِ: کسی معاملہ پر خوشی سے جھومنا۔

رھس: رَھَسَ - رَھْسًا الشیءَ: کو سخت روندنا۔ تَرَھَّسَ الشیءُ: چیز کا ہلنا، مضطرب ہونا۔ اِرْتَھَسَت رِجلا الدابَّۃِ: جانور کی ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ ـ القومُ: لوگوں کا بھیڑ کرنا۔ ـ الجرادُ: ٹڈیوں کا دَل بادل ہونا۔ ـ الوادی: وادی کا بھرنا۔

رھش: ا۔ تَرَھَّشَ الرجلُ: کرم و سخاوت سے کام لینا۔ ـ ت الناقۃُ: اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔ الرُھْشَۃ: سخاوت، کرم، حیا۔ ناقۃٌ رَھِیشَۃٌ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

۲۔ اِرْتَھَشَ الرجلُ: لرزنا، کانپنا۔ ـ القومُ: قوم میں جنگ چھڑنا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کے کھروں کا آپس میں ٹکرانا۔ ـ تِ القوسُ: کمان کا نرم اور ڈھیلی ہونا۔ الرَھَش: جانور کی اگلی ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ الرَوَاھِش واحد رَاھِش و رَاھِشۃ (ع ا) جانور کے بازوؤں کے اندر کی رگیں، ہاتھ کی ہتھیلی کی ظاہری رگیں۔ الرَاھِشَان (ع ا) جانور کے بازوؤں کی اندر کی دو رگیں۔ الرَھِیش: پتلا، کمزور، باریک پھل، پتلا ہلکا تیر، کم گوشت والا۔ ـ من التراب: گرنے والی مٹی۔

رھص: ا۔ رَھَصَ - رَھْصًا الشیءَ: کو زور سے نچوڑنا۔

۲۔ رَھَصَ - رَھْصًا الفرسَ: گھوڑے کے کھر کو زخمی کرنا۔ ـ الصیدَ: شکار کو کمزور و سست کرنا۔ رَھِصَ - رَھَصًا و رُھِصَ الفرسُ: گھوڑے کے کھر کا زخمی ہونا۔ اَرْھَصَ الفرسَ: گھوڑے کے کھر کو زخمی کرنا۔ الرَھْصَۃ: گھوڑے کے کھر کا زخم۔ الرَھِیص من الخیل: زخمی کھر والا گھوڑا۔ خُفٌّ رَھِیصٌ: اونٹ کا پتھر سے زخمی کھر۔ الرَوَاھِص من الحجارۃ واحد رَاھِصَۃ: کھر کو زخمی کرنے والے پتھر۔

۳۔ رَھَصَ - رَھْصًا الحائطَ: دیوار پر پہلا ردّہ رکھنا۔ اَرْھَصَ الحائطَ: دیوار پر پہلا ردّہ رکھنا۔ ـ الشیءَ: کی بنیاد ڈالنا، کو ثابت و پیوستہ کرنا۔ تَرَاھَصَت الصخورُ: چٹانوں کا آپس میں پیوستہ ہونا۔ الرِھْصُ من الحائط: دیوار کا پہلا ردّہ، دیوار بنانے کی مٹی۔ الرَھَّاص: مٹی گارا بنانے والا۔ اسدٌ رَھِیصٌ: اپنی جگہ سے نہ ٹلنے والا شیر۔ الرَوَاھِص واحد رَاھِصَۃ (ط ا): مضبوط جمی ہوئی چٹانیں۔ المَرْھَصَۃ جمع مَرَاھِص: درجہ، رتبہ۔

۴۔ رَھَصَ - رَھْصًا ہُ: کو ملامت کرنا، سے جلدی کرانا۔

۵۔ رَاھَصَ غریمَہُ: قرضدار کے گھر کی نگرانی کرنا۔

۶۔ اَرْھَصَہُ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھلائی کی کان بنانا۔

رھط: ا۔ رَھَطَ - رَھْطًا اللقمۃَ: بڑا لقمہ لینا۔ کہا جاتا ہے: ھو یرھط: وہ بہت کھاتا ہے۔ رَھَّطَ: بہت کھانا۔ ـ اللقمۃَ: بڑا لقمہ لینا۔

۲۔ رَھَّطَ الرجلُ: گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہنا اور نہ اترنا، گھر سے باہر نہ نکلنا، اندر ہی رہنا۔

۳۔ اِرْتَھَطَ القومُ: قوم کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الرَھْط و الرَھَط جمع اَرْھُط و اَرْھَاط و جج اَرَاھِط و اَرَاھِیط: آدمی کی قوم و قبیلہ، تین سے دس تک کا گروہ جس میں کوئی عورت نہ ہو۔ اس کا واحد نہیں۔ (اگر رھط کی طرف عدد کی اضافت کریں تو اس سے اشخاص و افراد مراد ہوتے ہیں۔ جیسے عشرون رَھْطًا: بیس شخص۔ کہا جاتا ہے: نحنُ ذو رَھْطٍ: ہم اکٹھے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہیں)،دشمن۔

۴۔ الرِهاط: گھر کا سامان۔ الرُهطَة و الرُهطَاء و الراهِطاء جمع رَهَاطى من جحرة اليربوع: جنگلی چوہے کا وہ سوراخ جس سے وہ مٹی نکالتا ہے۔

○ رَهَطَ - رَهْطًا: بڑے بڑے نوالے کھانا، حریصانہ طور پر ہڑپ کر جانا۔ رَهْط و رَهَط جمع اَرْهاط و اَرْهُط و اَرَاهِط و اَرَاهِيط: (لوگوں کا) گروہ، منڈلی، جتھا، ٹولی۔ رَهْط جمع رِهَاط: چمڑے کا لنگوٹ یا لنگوٹی۔

رهف: ۱۔ رَهَفَ - رَهْفًا السيفَ: تلوار کو باریک کرنا، پتلی کرنا۔ رَهُفَ - رَهَافَةً و رَهَفًا: باریک و پتلا ہونا صفت: رَهِيفٌ۔ اَرْهَفَ السيفَ: تلوار کی دھار کو پتلی اور تیز کرنا۔ الرَهِيف: پتلا، پتلی اور تیز کی ہوئی دھار۔ مُرْهَفُ الجسم (مفع): دبلے پتلے بدن والا۔ سيفٌ مُرْهَفٌ: تیز باریک دھار کی تلوار۔ خَصْرٌ مُرْهَفٌ: پتلی دبلی کمر۔ فرسٌ مُرْهَفٌ: پچکے ہوئے پیٹ اور قریب قریب پسلیوں والا گھوڑا (اور یہ عیب ہے)۔

۲۔ اَرْهَفَ بالكلام: فی البدیہہ کہنا۔

○ رَهُفَ - رَهَافَةً: پتلا دبلا ہونا، (تلوار کا) تیز ہونا۔ رَهَفَ - رَهْفًا و اَرْهَفَ هُ: کو پتلا کرنا، باریک کرنا۔ — هُ: کو تیز کرنا، (بالخصوص مجازاً)۔ اَرْهَفَ الأُذُنَ لفلان: کسی کی باتیں سننے کے لئے اپنے کان کھڑے کرنا۔ اَرْهَفَ السمعَ لـ/الی: کو بغور سننا، کی باتوں پر کان لگانا۔ رَهِف: پتلا، باریک۔ رَهِيف: پتلا، باریک، نازک، دبلا پتلا، تیز، تیز کیا ہوا۔ اِرْهَاف: تیز کرنا۔ مُرْهَف: پتلا، دبلا، عمدہ، تیز کیا ہوا، تیز۔ مُرْهَفُ الحِسّ: لطیف، ذی حس، حساس۔

رهق: ۱۔ رَهِقَ - رَهَقًا: ظلم کرنا، بداعمال ہونا، جھوٹ بولنا۔ رَهَّقَ هُ: کو برائی سے متہم کرنا۔ اَرْهَقَ هُ: کو طاقت سے زیادہ کام پر اکسانا۔ — هُ ظلمًا: کو ظلم میں مبتلا کرنا۔ — هُ اِثْمًا: کو گناہ پر اکسانا۔ — هُ عُسْرًا: کو تکلیف دینا۔ کہا جاتا ہے: لا تُرْهِقْنِي لا اَرْهَقَكَ اللّٰهُ: تم مجھ پر سختی نہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہ کرے گا۔ الرَهَق (مص): گناہ، تہمت، کسی کو ایسے کام پر اکسانا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ الرَهِيق: شراب۔ المُرْهَق: سخت تکلیف میں پھنسا ہوا۔ المُرَهَّق (مفع): خراب، جس کو دین میں متہم کیا گیا ہو۔

۲۔ رَهِقَ - رَهَقًا: ہلکا ہونا، بے وقوف ہونا، صفت: رَهِق۔ الرَهَق (مص): جہالت، کم عقلی۔ المُرَهَّق (مفع): کم عقل، جاہل۔

۳۔ رَهِقَ - رَهَقًا: جلدی کرنا۔ — السفرُ: سفر کا قریب و نزدیک ہونا۔ کہا جاتا ہے: رَهِقَتِ الكلابُ الصيدَ: کتوں نے شکار کو جا لیا۔ راهَقَ الغلامُ: لڑکے کا بلوغ کے قریب پہنچنا۔ صفت: مُرَاهِق۔ اَرْهَقَ هُ: کو پالینا۔ — زيداً ان يصلّى: زید سے نماز پڑھنے میں جلدی کرانا۔ — الصلاةَ: نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرنا۔ الرِهَاق و الرُهاق: قریب۔ کہا جاتا ہے: كانوا رِهَاقَ مِائَةٍ: وہ سو کے قریب تھے۔ الرَهَقَى: ایک قسم کی دوڑ۔ کہا جاتا ہے: هو يعدو الرَهَقَى: وہ اپنے طالب کو جا لینے کے لئے دوڑتا ہے۔ المُرْهَق: قتل کے لئے گرفتار کیا ہوا۔ المُرَهَّق: سخی، فیاض۔ المُرَاهِق: بلوغت کے قریب پہنچا ہوا لڑکا۔ کہا جاتا ہے: صَلَّى الصلاةَ مُرَاهِقًا: اس نے وقت ختم ہونے کے قریب نماز پڑھی۔

۴۔ الرَيْهُقان (ن): زعفران۔

○ رَهِقَ - رَهَقًا ه/ هُ: سے آملنا، کو جا لینا۔ راهَقَ هُ: کسی عمر کے قریب پہنچنا، بلوغت کے قریب پہنچنا، عنفوان شباب میں ہونا، اٹھتی جوانی میں ہونا۔ اَرْهَقَ هُ ه: کو (مشکلات وغیرہ) سے گزارنا، کو (تکلیف وغیرہ) برداشت کرانا۔ — ه ب: پر کا بوجھ ڈالنا۔ — ه: کو پچھاڑنا، زیر کرنا، پر بوجھ ڈالنا، کو بے آرام کرنا، بے چین کرنا۔ اَرْهَقَهُ جَذْبًا: کو زور سے کھینچنا۔ مُرَاهَقَة: سن بلوغ، بلوغت، جوان ہونا۔ اِرهاق: دباؤ، خاتمہ، (کام وغیرہ کا) بھاری بوجھ۔ مُرَاهِق: نوجوان۔ مُرْهِق: دشوار، سخت، گران (بوجھ، گرمی)۔

رهك: رَهَكَ - رَهْكًا الشيءَ: چیز کو باریک پیسنا، صفت مفعولی: رَهِيك و مَرْهُوك۔ — بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا، رہنا۔ اِرْتَهَكَ: چلنے میں سست اور ڈھیلا ہونا۔ الرَهَك: نیک عمل۔ الرَهْكَة: کمزوری۔ — والرُهْكَة من الرجال او الابل: کمزور آدمی یا اونٹ، جس میں نہ طاقت ہو نہ کوئی بھلائی۔

رهل: ۱۔ رَهِلَ - رَهَلاً: ڈھیلے گوشت والا اور پھولا ہوا ہونا۔ صفت: رَهِل۔ رَهَّلَ و اَرْهَلَ هُ النومُ: نیند کا کسی کو سست و ڈھیلا کرنا۔ تَرَهَّلَ: ڈھیلا ہونا۔ الرَهَل: ڈھیلا پن اور پھولا ہوا ہونا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ فيه رَهَل: فلاں شخص ڈھیلا اور پھولا ہوا ہے۔ المُتَرَهِّل (طب): ڈھیلے بدن والا۔

۲۔ الرِهْل: پتلا پتلا بادل۔

○ رَهِلَ - رَهَلاً: نرم ہونا، ڈھیلا ڈھالا ہونا، بہت ہی پھولا ہوا ہونا، ابھرا ہوا ہونا، (جسم، گوشت کا) چربیلا ہونا، موٹا ہونا، فربہ ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ رَهِل: موٹا، فربہ، چربیلا، نرم، ڈھیلا ڈھالا، پچپچا۔ تَرَهُّل: موٹاپا، فربہی۔ مُتَرَهِّل: موٹا، فربہ، چربیلا، بہت ہی پھولا ہوا، ابھرا ہوا، نرم، پچپچا، ڈھیلا ڈھالا۔

رهم: ۱۔ اَرْهَمَتِ السماءُ: آسمان کا پیہم نرم ہلکی بارش برسانا۔ الرِهْمَة جمع رِهَم و رِهَام: پیہم ہلکی بارش۔ الأَرْهَم: زیادہ زرخیز۔ المَرْهَم جمع مَرَاهِم (طب): مرہم۔ مكانٌ مَرْهُوم: وہ جگہ جہاں پیہم ہلکی بارش ہوئی ہو۔

۲۔ الرُهَام: غیر شکاری پرندہ، بڑی تعداد۔ الرَهَام و الرَهُوم: دبلی بکری۔

○ رِهْمَة جمع رِهَم و رِهَام: پھوار، ترشح، خوشگوار دیرپا بارش۔ مَرْهَم جمع مَرَاهِم: مرہم، پھاہا، کریم، کولڈ کریم، بالوں میں لگانے کا خوشبودار روغن (pomade)۔

رهن: ۱۔ رَهَنَ - رَهْنًا الشيءُ: دائم و ثابت رہنا۔ اسی سے ہے: نعمةُ اللّٰه راهِنَة: اللہ کی نعمت دائم و قائم ہے۔ — الشيءَ: کو ہمیشہ رکھنا۔ — بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ اَرْهَنَ لضيفه الطعامَ و الشرابَ: مہمان کے لئے کھانے پینے کی اشیاء ہمیشہ مہیا رکھنا۔ الراهِن (فا): ہمیشہ رہنے والا، مضبوط، ہمیشہ رہنے والی خوراک وغیرہ، تیار۔ الراهِنَة: مضبوط۔ کہا جاتا ہے: هذه حجة راهِنَة: یہ مضبوط دلیل ہے۔

۲۔ رَهَنَ - رَهْنًا الشيءَ فلانًا و عند فلان: کسی چیز کو کسی شخص کے پاس گروی رکھنا۔ راهَنَ رِهَانًا و مُراهَنَةً علی الخيل: گھوڑا دوڑانے کیلئے کسی سے شرط لگانا۔ — علی كذا: پر شرط لگانا۔ اَرْهَنَ هُ الشيءَ: کسی چیز کو کسی کے پاس گروی رکھنا۔ — فلانًا: کو پیشگی دینا۔ — في السلعة: چیز کو گراں کرنا، چیز کی بہت قیمت مانگنا۔ — الميّتَ القبرَ: میت کو قبر میں رکھنا۔ تَرَاهَنَ القومُ: آپس میں شرط باندھنا۔ اِرْتَهَنَ الشيءَ منه: چیز کو سے گروی لینا۔ — بالامر: کسی بات پر مقید ہونا۔ اِسْتَرْهَنَ هُ الشيءَ: سے کوئی چیز گروی طلب کرنا۔ الرَهْن (مص) جمع رِهَان و رُهُون و رُهُن و رُهْن: گروی، کسی شئے کی بندش و روک، گروی رکھی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے: انی لك رَهْنٌ بكذا: میں

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تمہارے لئے اس کا ضامن ہوں۔ ھذا رَھْنٌ مالٍ: یہ مال کے مقابل ہے، مال پر موقوف یا منحصر ہے۔ ذلک فی مایُرْھَن: یہ لئے جانے والے مال کی جگہ لینے کے برابر ہے۔ خیلُ الرِّھان: شرط لگانے کے گھوڑے۔ ھما کَفَرَسَی رِھان: وہ گھوڑدوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہیں یعنی تساوی ہیں۔ الرَّھِین: گروی رکھا ہوا، کسی کے عوض روکی ہوئی شئے۔ کہا جاتا ہے: انا رھینٌ باعمالی: میں اپنے اعمال میں قابل مؤاخذہ ہوں۔ الرَّھِینَۃ جمع رَھَائِن: گروی رکھی ہوئی چیز۔ انا رھینۃٌ بکذا: میں اس میں اس کا ماخوذ ہوں یا ضامن ہوں۔ کلُّ نفسٍ بما کسبت رھینۃٌ: ہر نفس اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے۔ الخَلْقُ رَھائِنُ الموت: مخلوق موت سے مقید ہے۔ المُرْتَھَن (مفع): ہر وہ شے جو کسی چیز کے عوض روکی جائے۔ ــــ بالامر: کسی معاملہ سے مقید۔ کہا جاتا ہے: کلُ امریءٍ بالموت مُرْتَھَنٌ: ہر انسان موت کے ساتھ مقید ہے۔

۳- رَھَنَ ـ رُھُوْنًا: لاغر و دبلا ہونا۔ صفت: رَاھِن۔ اَرْھَنَ فلانًا: کو کمزور کرنا۔ الرَّاھِن (فا): دبلا، لاغر۔

۴- الرَّھْنَامَج و الرَّاھْنَامَج: ملاحوں کا چارٹ یا نقشہ جس کی رو سے وہ سمندر میں راہ دیکھتے ہیں۔ (فارسی لفظ)۔

○ رَھَنَ ـ رَھْنًا ہ ہ/عند: کو کے پاس گروی رکھنا، رہن رکھنا، کو بطور ضمانت کے پاس جمع کرانا، کی تحویل میں دینا۔ ــ ہ: (غیر منقولہ جائیداد) رہن رکھنا، گروی رکھنا۔ رَاھَنَ ہ علی: کے ساتھ پر شرط لگانا، بدنا یا باندھنا۔ اَرْھَنَ ہ: کو گروی رکھنا، رہن رکھنا، کو ضمانت کے طور پر جمع کرانا، تحویل میں دینا، کو ضمانت کے طور پر دینا۔ اِرْتَھَنَ ہ من: کو سے ضمانت کے طور پر وصول کرنا یا لینا۔ ــــ ہ: کو رہن رکھنا، گروی رکھنا، کو بطور ضمانت تحویل میں دینا یا جمع کرانا۔ ــــ ہ ب: کو کے تابع کرنا، کو سے مشروط کرنا۔ اُرْتُھِنَ ب: کے تابع ہونا۔ اِرْتَھَنَ نفسَہُ ب: (کسی بڑے مقصد کے لئے) اپنے آپ کو وقف کرنا۔ اِسْتَرْھَنَ ہ ہ: سے کوئی چیز بطور ضمانت طلب کرنا۔ رَھْــن: گروی رکھنا، رہن رکھنا۔ جمع رُھُون و رُھُونات و رِھَان: گروی رکھی ہوئی چیز۔ ــ ب: کے لئے ضمانت۔ ــ: یرغمال، رہن، گروی۔ رَھْنٌ ب: پر منحصر، موقوف، سے مشروط، کی شرط پر، بشرط، بہ امید، کے ماتحت، کے تابع۔ رَھْنَ ــ: جب تک نہ، کے ہونے تک، سے مشروط، کے تابع، کے ماتحت، کا مستوجب۔ مَحَلُّ رھونات: چیز رکھ کر روپیہ سود پر دینے والی دوکان۔ رھنَ اِشارَتِہ: کے حکم کے تحت۔ رھنَ سیطرتہ: کسی کے اختیار کے تحت، کسی کے تسلط کے تحت۔ ھذا رھنَ ذاک: یہ اس پر منحصر ہے، موقوف ہے۔ المسالۃ رھنَ اِھتمامہ: وہ اس مسئلہ پر پوری توجہ دے رہا ہے۔ اَوْدَعَ السجنَ رھنَ التحقیق: اسے تحقیقات تک حراست میں لے لیا گیا۔ رَھْنِیَّۃ: رہن، رہن نامہ۔ رَھِین: گروی رکھا ہوا، رہن رکھا ہوا، بطور ضمانت دیا ہوا، ضمانت کے طور پر رکھا ہوا۔ ــ ب: کے لئے ضمانت، ذمہ دار، کی شرط پر، سے مشروط۔ کان رھینۃً: کا احسان مند ہونا، کا رہین منت ہونا، پر موقوف ہونا۔ رَھِینَۃ جمع رَھَائِن: گرو، رہن، ضمانت، یرغمالی، رہن۔ رِھَان: شرط، مقابلہ، مسابقہ۔ مُرَاھَنَۃ جمع مُرَاھَنات: شرط۔ رَاھِن: گروی رکھنے والا، رہن رکھنے والا، مقرر، معین، دیرپا، مستقل، تازہ، حالیہ، حال کا، موجودہ، حقیقی، واقعی، اصلی۔ الظروفُ الراھِنَۃُ: موجودہ حالات۔ الحالۃُ الراھنۃ: موجودہ حالت۔ مَرْھُون: گروی رکھا ہوا، رہن رکھا ہوا، بطور ضمانت دیا ہوا۔ ــ ب: سے مشروط، کے تحت۔ الامور مرھونۃٌ باَوْقاتِھا: ہر چیز کے لئے ایک وقت ہے۔ مُرْتَھِن: مرتہن، جس کے پاس کوئی چیز گروی یا رہن رکھی جائے، چیز رکھ کر روپیہ سود پر دینے والا۔

رھا: ۱- رھا ـ رَھْوًا: نرمی کرنا۔ (کہا جاتا ہے: اَرْہُ علی نفسک: اپنے نفس پر نرمی کرو) نرم رفتار چلنا۔ ــ البحرُ: سمندر کا سکون پذیر ہونا۔ اَرْھَی اِرْھاءً علی نفسہ: اپنے نفس پر نرمی کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَرْہِ علی نفسک: اپنے نفس پر نرمی کرو۔ اَرْھَی لکَ الشیءُ: تیرے لئے کسی چیز کا ممکن ہونا۔ اَرْھَیتُہُ لکَ: میں نے تم کو اس پر قادر کیا۔ تَرَاھَی القومُ: آپس میں نرمی کا سلوک کرنا۔ الرَّھْو: نرم رفتار۔ کہا جاتا ہے: جاءَت الخیلُ رَھْوًا: گھوڑے نرم رفتار سے چلتے ہوئے آئے۔ ــــ جمع رِھَاء و الرَّھْوَۃ: پست جگہ، بلند جگہ۔ الرَّاھِی من العیش: آسودہ زندگی۔ الرَّاھِیَۃ: الراھی کا مؤنث۔ الرَّھْوَان: پست زمین، نرم پیٹھ کے گھوڑے کو بھی رَھْوان بولتے ہیں۔ (ترکی و فارسی لفظ)۔

۲- رَھَا ـ رَھْوًا بین رِجلَیہ: دونوں ٹانگیں کھولنا۔ ــ الطائرُ: پرندے کا اپنے بازو پھیلانا۔ اَرْھَی اِرْھاءً: کشادہ جگہ میں آنا۔ بئرٌ رَھْوٌ: چوڑے منہ کا کنواں۔ الرَّھاء من الاَماکِن: فراخ و کشادہ جگہ۔ ــ من کل شیءٍ: ہر چیز کا ہموار حصہ۔

۳- رَاھَی مُرَاھَاۃً الرجُلَ: کے قریب ہونا، کے ساتھ اکٹھا ہونا، باہم حماقت کرنا۔ اِرْتَھَی القومُ: آپس میں گھل مل جانا، دلیا تیار کرنا۔ الرَّھْو و الرَّھْوَۃ: آدمیوں کا گروہ۔ الرَّھِیَّۃ (ط): کوٹے ہوئے گیہوں اور دودھ سے تیار کیا ہوا دلیا۔

۴- اَرْھَی اِرْھاءً: رہو پرندے کے کھانے پر ہمیشگی کرنا۔ ــ لھم الطعامَ: کے لئے کھانا تیار رکھنا۔ الرَّھْو جمع رِھَاء (ح): سارس، کلنگ۔

۵- الرَّھْو: تیز چال۔ کہا جاتا ہے: الناسُ رَھْوٌ ما بین المدینۃ والجبل: لوگ شہر اور پہاڑ کے درمیان مل کر چلتے ہیں۔ غارۃٌ رَھْوٌ: لگاتار حملہ۔ ثوبٌ رَھْوٌ: باریک کپڑا۔ الرَّاھِیَۃ (ح): شہد کی مکھی۔ الاَرْھاء: جوانب، اطراف۔ المُرھِی من الخیل جمع المَرَاھِی: تیز رفتار گھوڑا جو بظاہر تیز نہ معلوم ہوتا ہو لیکن مقابلہ کے وقت ہوا سے باتیں کرتا ہو۔

۶- رَھْوَکَ الرجلُ: چلنے میں ڈھیلے جوڑوں والا ہونا۔ ــ القومُ: مضطرب ہونا۔ الرَّھْوَک: موٹا بکری کا بچہ یا ہرن کا۔ شابٌ رَھْوَکٌ: نرم و نازک نوجوان۔

○ رَھَا ـ رَھْوًا: دوگام چلنا۔ رَھْو: خاموش ساکن، ساکت، پرامن، سکوت، خاموشی، سکون، جمع رِھَاء: کونج، کلنگ۔ رَھْوَان: دوگامہ چال والا گھوڑا دلکی چال والا گھوڑا، گھوڑا، ٹٹو۔

○ الرُّھاء: ایک شہر کا نام۔

○ رَھْوَن و تَرَھْوَنَ: گھوڑے کا دوگامہ چلنا۔

راب: ۱- رَابَ ـ رَوْبًا و رُؤُوبًا اللبنُ: دودھ کا جمنا صفت: رَائِب۔ کہا جاتا ہے: رَابَ دمُہُ: اس کی ہلاکت کا وقت قریب آپہنچا۔ رَوَّبَ و اَرَابَ اللبنَ: دودھ کو جما کر دہی بنانا۔ الرائِب (فا): دہی۔ الرَّوْب: دہی۔ کہا جاتا ہے: ما عندہ شوبٌ ولا روبٌ: اس کے پاس نہ تو شہد ہے اور نہ ہی دہی۔ الرُّوْبَۃ: گذران کا ذریعہ۔ دودھ بکثرت پینے سے کسل و سستی۔ ــ و الرَّوْبَۃ: دودھ جمانے کے لئے اس میں تھوڑی سی ڈالی جانے والی چھاچھ، دودھ کا بقیہ۔ قومٌ رَوْبَی واحد رَائِب و رَوْبان: دہی پی کر مدہوش لوگ۔ المِرْوَب: دودھ جمانے کا برتن۔ سِقاءٌ مُرَوَّبٌ: وہ مشک جس میں دہی جمایا گیا ہو۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ رَابَ ـُ رَوْبًا و رُؤُوبًا الرجلُ: متحیر ہونا، ست ہونا، عقل میں خلل آنا۔ رَوَّبَ تِ الدابَّةُ: جانور کا تھک جانا۔ الأَرْوَب: حیران، اونگھنے والا، ست۔ الرَوْبَى: چلنے کی وجہ سے ست ہوجانے والے لوگ۔ قوم رَوْبَى: کاہل الوجود لوگ۔

۳۔ رَابَ ـُ رَوْبًا و رُؤُوبًا الرجلُ: جھوٹ بولنا۔

۴۔ الرَاب: قدر۔ کہا جاتا ہے: هذا رابُ كذا: یہ اتنی مقدار ہے۔ الرَائِب من الامور: شک وشبہ سے پاک امور، مشتبہ امور۔ الرُوْبَة: تنگ دستی، حاجت۔ فلانٌ لايقوم برُوبَةِ اهله: فلاں شخص اپنے گھر والوں کی حاجت روائی نہیں کرتا۔ ــــ من اللحم: گوشت کا ٹکڑا۔ ــــ من الليل: رات کا ایک پہر۔ الرُوبِينِيَّة (ن): خاردار شاخوں اور خوشبودار پھولوں والا درخت، پھول سفید ہوتے ہیں یا گلابی رنگ کے، یہ درخت امریکی الاصل ہے۔

○ رَابَ ـُ رَوْبًا: دہی جمنا، دودھ جمنا۔ رَوَّبَ و أَرَابَ ہ (دودھ) جمانا۔ رَوْب: جما ہوا دودھ، دہی۔ رائِب: جما ہوا دہی۔

○ رَوْب جمع أَرْوَاب: رات کا چغہ، شبانہ لبادہ، شب خوابی کا لبادہ۔

○ رُبَابِيكِيَا۔ بائع الروبا بيكيا: کباڑیا، ردی چیزیں بیچنے والا۔

○ رَوْبَصَة: خواب خرامی، نیند میں چلنا۔ تَرَوْبُص: خواب خرامی۔

○ روبل: ربل (روسی سکہ)

○ رُوْبِيَة جمع رُوْبِيات: روپیہ (پاکستان اور ہندوستان کا سکہ)

○ رُوْتَانِيَة Ruthenia۔

راث: رَاثَ ـُ رَوْثًا الفرسُ: گھوڑے کا لید کرنا۔ الرَوْث جمع أَرْوَاث: لید (گھوڑے اور تمام کھر والے جانوروں کی)۔ الرَوْثَة: الرَوث کا واحد، چونچ، ناک کی چوٹی کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے: فلان يضربُ بِلِسانِهِ رَوْثَة انفِهِ: فلاں شخص بہت زبان دراز ہے۔ المَرَاث و المَرْوَث من الفرس: لید کا مخرج۔

○ رَاثَ ـُ رَوْثًا: لید کرنا۔ رَوْث: اسم جنس واحد رَوْثَة جمع أَرْوَاث: لید۔

راج: رَاجَ ـُ رَوْجًا و رَوَاجًا الامرُ: جلدی ہونا۔ رَوَّجَ الشيءَ و بِهِ: کو جلدی کرنا۔ عام لوگ اسے لازم استعمال کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں: رَوَّجَ الرجلُ: آدمی نے جلدی کی۔ تَرَوَّج: حوض کے گرداگرد پھرنا۔ صفت: رَوَّاج۔ الرَوْجَة: جلدی سرعت۔

۲۔ رَاجَ ـُ رَوْجًا و رَوَاجًا تِ السِلْعَةُ: سامان کا خوب فروخت ہونا۔ ــ ت الدراهِمُ: درہموں کا رواج پکڑنا، رائج ہونا۔ ــ الطعامُ: کھانے کا پک کر تیار ہونا۔ کہا جاتا ہے: اَحْضِرْ لَنَا ماراجَ: جو کچھ دستیاب ومیسر ہو، ہمارے لئے لاؤ۔ رَوَّجَ السِلْعَةَ والدراهِمَ: سامان تجارت اور درہم رائج کرنا۔

۳۔ رَاجَ ـُ رَوْجًا و رَوَاجًا تِ الريحُ: ہوا کا نامعلوم سمت سے چلنا۔ رَوَّجَ فلانٌ كلامَهُ: کسی کا اپنے کلام کو مزین کرکے اس کی حقیقت کو چھپانا، مبہم کرنا۔

○ رَاجَ ـُ رَوَاجًا: پھیلنا، گردش کرنا، رائج ہونا، چالو ہونا، خوب بکنا، کا بازار گرم ہونا، کو منڈی ملنا۔ ــ ل کے لئے دستیاب ہونا، موجود و حاضر ہونا۔ رَوَّجَ ہ (افواہیں، خبریں) پھیلانا، (افواہیں، خبریں، سکہ، روپیہ) رائج کرنا، عام کرنا، مشتہر کرنا، مشہور کرنا، کی فروخت کو آگے بڑھانا، (سامانِ تجارت) کیلئے منڈی کھولنا، (سامان تجارت) بیچنا، بازار میں لانا۔ ــــ ہ/ل: کو ترقی دینا، آگے بڑھانا۔ ــ ل: کے لئے نشر و اشاعت کرنا، کی اشاعت کرنا۔ رَوَاج: گردش، اشاعت، قابل فروختگی بازار میں لیجانے کے قابل ہونا، بکنے کی صلاحیت، فروخت کی قابلیت، فروخت شدہ اشیاء کی مقدار۔ أَرْوَج: زیادہ عام، بہتر فروخت ہونے والا، زیادہ وسیع علاقہ میں پایا جانے والا، زیادہ لوگوں میں تقسیم ہونے والا۔ تَرْوِيج: پھیلانا، اشاعت، گردش، فروخت، سامان تجارت کی تقسیم، ترقی، فروغ، رائج، گردش میں، چالو، مروج، رائج الوقت، ہمہ گیر، عالم گیر، وسیع علاقہ یا بہت لوگوں میں پایا جانے والا، عام قابل فروخت، جو بک سکے، جس کی بکری ہو سکے، جس کی مانگ ہو، خوب بکنے والا (مال تجارت) جس کی گرم بازاری ہو۔

○ رُوج: سرخی، گلگونہ، غازہ عارض۔

راح ۱۔ رَاحَ ـُ رَوَاحًا: شام کے وقت آنا یا جانا یا کام کرنا، وقت کی قید کے بغیر مطلق جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ــــ رَوَاحًا و رَوْحًا القومَ و اليهم و عندهم: قوم کے پاس شام کے وقت جانا، (مطلقًا) قوم کے پاس جانا۔ ــ و تَرَاحَ رائحةً تِ الابلُ: اونٹوں کا شام کے وقت اپنے ٹھکانے پر واپس آنا۔ رَوَّحَ القومَ: شام کے وقت قوم کے پاس جانا۔ ــ الإبلَ: اونٹوں کو شام کے وقت ان کے ٹھکانے (باڑے) میں واپس لانا۔ أَرَاحَ إِرَاحَةً الابلَ: اونٹوں کو ان کے باڑے میں واپس لانا۔ ــ الرجلُ: شام کے وقت میں داخل ہونا۔ تَرَوَّحَ: شام کے وقت چلنا یا کام کرنا۔ ــ القومَ: قوم کے پاس شام کے وقت جانا۔ الرَائِح جمع رَوْح (فا) الرائحة جمع رَائِحات و رَوَائِح: الرائح کا مؤنث: ــ الروائح کا واحد روائح: شام کے وقت ہونے والی بارشیں یا شام کے وقت آنے والے بادل۔ کہا جاتا ہے: مالَهُ سارحةٌ ولا رائحةٌ: اس کے پاس مویشی بالکل نہیں۔ الرَوْحَة جمع رَوْحَات: راح کا اسم مرہ۔ الرَوَاح (مص): شام یا سورج کے ڈھلنے کے وقت سے رات تک کا وقت اس کا مقابل الصباح ہے۔ کہا جاتا ہے: خرجوا بِرَوَاحٍ من العشيّ: وہ شام کے پہلے حصہ میں باہر نکلے۔ افْعَلُ ذلك في سَرَاحٍ و رَوَاحٍ: میں یہ کام صبح و شام کرتا ہوں۔ المُرَاح: اونٹوں، گایوں، بکریوں وغیرہ کا باڑہ، ٹھکانا۔ المَرَاح: لوگوں کے آنے جانے کی جگہ۔

۲۔ رَاحَ ـُ رَوْحًا اليومُ: دن کا تیز ہوا والا ہونا۔ ــــ يَرَاحُ رِيْحًا اليومُ: دن کا تیز ہوا والا ہونا۔ ــــ البيتُ: گھر کا ہوادار ہونا۔ کہا جاتا ہے: افتح البابَ حتى يَرَاحَ البيتُ: دروازہ کھول کہ ہوا گھر میں آئے۔ ــــ الريحُ الشيءَ: چیز کو ہوا لگنا۔ ــــ القومُ الريحَ: قوم کا ہوا میں داخل ہونا۔ رِيحَ: (کو) ہوا لگنا۔ صفت: مَرُوح و مَرِيح۔ رَوَّحَ عليه بالمِرْوَحَة: کو پنکھا کرنا، پنکھے سے ہوا دینا۔ أَرَاحَ اراحةً القومُ: لوگوں کا ہوا میں داخل ہونا۔ تَرَوَّحَ بالمِرْوَحَة: پنکھا جھلنا۔ اِسْتَرْوَحَ استرواحًا الغصنُ: ٹہنی کا ہوا سے ہلنا۔ يوم راحٌ: تیز ہوا والا دن۔ ليلةٌ راحةٌ: تیز ہوا والی رات۔ الرَوْح: بادِ نسیم۔ يوم رَوْحٌ: خوشگوار دن۔ ليلةٌ رَوْحَةٌ: خوشگوار رات۔ الريح جمع أَرْيَاح و أَرْوَاح و رِيَاح و رِيَح جج أَرَاوِيح و أَرَايِيح: ہوا، بو (یہ مؤنث ہے)۔ الرياح: چار ہیں (۱) الجنوب: دکھنی (۲) الشمال: اُتری۔ (۳) الصبا: پروائی (۴) الدَبُور: پچھوائی۔ الرِيْحَة: ہوا۔ الرَيِّح من الايام: تیز ہوا والا دن، اچھی ہوا والا دن۔ الرائحة جمع رائحات و رَوَائِح: بو، (خوشبو یا بدبو)۔ المَرُوح و المَرِيح: جس کو ہوا لگے۔ يوم مَرُوحٌ: عمدہ ہوا کا دن۔ المِرْوَح جمع مَرَاوِح: پنکھا۔ المَرْوَحَة جمع مَرَاوِح: بیابان۔ المِرْوَحَة

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جمع مَرَاوِح: پنکھا۔ ــــ الکَهُرَبَائِية: برقی پنکھا، بجلی کا پنکھا، عام لوگ اسے مِهْوَايَة کہتے ہیں۔ (حی): موٹر کا ایک جزء۔ (پنکھا)

۳۔ رَاحَ يَرَاحُ رَاحَةً الشيءَ: چیز کی بو پانا۔ ــــ رَيْحًا الشيءَ: کی بو پانا۔ رَوَّحَ الدهنَ: تیل کو خوشبودار بنانا۔ اَرَاحَ اِرَاحَةً الشيءَ: کی بو محسوس کرنا۔ ــــ الماءُ او اللحمُ: پانی یا گوشت کا بدبودار ہونا۔ اَرْوَحَ الماءُ: پانی کا بدبودار ہونا۔ ــ الشيءَ: کی بو پانا۔ تَرَوَّحَ الماءُ: پانی کا اپنے قریب کی چیز کے اثر سے بودار ہونا۔ ــــ الشيءُ: کی بو پھیلنا۔ اِسْتَرْوَحَ اِسْتِرْوَاحًا الشيءَ: کو سونگھنا۔ ــ الصيدُ: شکار کا انسان کی بو پانا۔ الرِيح بو (جو سونگھنے سے معلوم ہو) اچھی اور خوشگوار چیز۔ الرِيْحَة بو۔ الرَيْحان جمع رَيَاحِين: ہر خوشبودار پودا (ن) ایک چھوٹا جنگلی پودا جس کے نیلے پھول چمکدار ہوتے ہیں۔ اسے حبق بھی کہتے ہیں، روزی، معیشت۔ الرَيْحَانَة: پھولوں کا گلدستہ۔ دُهْنٌ مُرَوَّح (مفع) خوشبودار تیل۔

۴۔ رَاحَ يَرَاحُ رَاحَةً للمعروف: نیکی کرنے کی طرف خوشی سے جلدی سے کرنا۔ ــ تْ يدُه للامر: کام کے لئے سبک دست ہونا۔ ــ منك معروفاً: اس نے تم سے بھلائی حاصل کی۔ ــــ رَوَاحًا و رَاحًا و رَاحَةً و رِيَاحَةً و رُؤُوحًا و أَرْيَحِيَّةً للامر: کسی کام کی طرف خوشی سے متوجہ ہونا۔ رَوَّحَ قلبَهُ: کے دل کو بیدار کرنا۔ ــــ الرجلَ: کو آرام دینا۔ ــــ بالجماعة: تراویح باجماعت پڑھنا۔ رَاوَحَ بين العَمَلَين: باری باری سے دو کاموں میں مشغول ہونا۔ ــــ بين رِجْلَيْه: باری باری سے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا۔ اَرَاحَ المعروفَ: بھلائی پانا۔ ــــ هُ: کو راحت میں رکھنا۔ ــ الرجُلُ: سانس لینا، مرنا۔ اَرَاحَ فَأَرَاحَ: اس نے مر کر سکھ میں ڈالا۔ ــ على فلانٍ حقَّهُ: کسی کا حق واپس دے دینا۔ اَرْوَحَ عليه حقَّهُ: کا حق اسے واپس دے دینا۔ تَرَاوَحَ الرجلان الامرَ: دو آدمیوں کا کسی کام کو باری باری سے کرنا۔ کہا جاتا ہے: ان يَدَيْهِ تترا وحان بالمعروف: اس کے ہاتھ باری باری نیکی کرتے ہیں۔ اِرْتَاحَ: خوش ہونا، چست ہونا، آرام لینا (عام لوگوں کی زبان میں)، کہا جاتا ہے: هما يَرْتَوِحان عملاً: وہ دونوں کام کو باری باری سے کرتے ہیں۔ ــــ اللّٰهُ لَهُ بِرَحْمَتِهِ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بلا و مصیبت سے بچانا۔ اِسْتَرَاحَ استراحةً: آرام پانا۔ ــ اليه سے تسلی و سکون پانا۔ اِسْتَرْوَحَ اِسْتِرْوَاحًا: آرام پانا۔ الراح: خوشی، نشاط، شراب۔ الرَوْح: خوشی، آرام، رحمت، انصاف، مدد۔ الرِيح: رحمت، مدد، غلبہ و طاقت۔ الراحَة جمع راحات: آرام، خوشی (یقین سے حاصل ہونے والی)۔ الرَوَاح والرَوَاحَة والرَوِيْحة: یقین سے پیدا شدہ خوشی۔ الأَرْيَحِيّ: وسیع الخلق اور نیکی کے کاموں میں چست شخص۔ الأَرْيَحِيَّة: انسان کی وہ نیک عادت جو اس کو اچھے افعال اور فیاضی پر ابھارتی ہے۔ التَرَاوِيح تَرْوِيحة کی جمع: اسکے معنی مطلقاً بیٹھنے کے ہیں۔ پھر شب ہائے رمضان میں ہر چار رکعت نماز کے بعد آرام لینے کے لئے نشست پر اس کا اطلاق کیا جانے لگا۔ تراویح کی پوری بیس رکعت نماز کو بھی تراویح کہتے ہیں۔ اور چار رکعت کو ترویحہ۔ المُسْتَراح: بیت الخلاء، پاخانہ۔

۵۔ رَاحَ يَرَاحُ راحةً الشجرُ: موسم گرما کے بعد درخت کا پتے لانا۔ تَرَوَّحَ الشجرُ: موسم گرما کے بعد درخت کا پتے لانا۔ ــــ النبتُ: پودے کا دراز ہونا۔ اِسْتَرْوَحَ اِسْتِرْوَاحًا الشجرَ: درخت کو ہرا کرنا۔

۶۔ رَوِحَ ـ رَوَحًا: کشادہ ہونا۔ الرَوَح: وسعت، دو ٹانگوں کے درمیان کشادگی فراخی۔ الرَاحَة جمع رَاحَات: صحن۔ الأَرْوَح مونث رَوْحَاء جمع رُوْح: وہ شخص جس کی ٹانگوں کے درمیان فراخی ہو۔ ــ و الأَرْيَح: واسع، کشادہ۔

۷۔ الرَاحَة جمع راحات: الراح کا واحد، کف دست ہتھیلی، (کہا جاتا ہے: تركتُه على انقى من الراحة میں نے اس کو بالکل تہی دست چھوڑا) کپڑے کی تہہ۔ کہا جاتا ہے: اطوِ الثوبَ على راحته: کپڑے کو اس کی تہہ پر تہہ کرو۔ الرُوح جمع اَرْوَاح: (مذکر و مونث) جان، نفس۔ (کہا جاتا ہے: هو خفيف الرُوح: وہ پاکیزہ ہے)، وحی، اللہ تعالیٰ کا حکم و امر، ایک آسمانی روح۔ الروح الاعظم: اللہ تعالیٰ۔ رُوحُ القُدُس: الٰہی اقانیم ثلاثہ کا تیسرا اقنوم۔ الأَرْوَاح (لث): اگلے حکماء معدنیات کی ایک قسم پر ارواح کا اطلاق کرتے ہیں جیسے پارہ، بعض جڑی بوٹیوں کا خلاصہ اور بعض پھلوں اور دانوں اور نباتات کا نچوڑ۔ الأَرْوَاحُ الخبيثة: شیاطین، ابالیس، نسبت کیلئے روحانی۔ الرُوحانِيَّة: یہ عقیدہ کہ نفس غیر مادی ہے، روحانی وجود۔

marfat.com

ــــ کہا جاتا ہے: ... (illegible under watermark)

سے پہلے آئے تو) کچھ شروع کرنا، کچھ کرنے لگنا۔ رَوَّحَ: ہوا کرنا۔ ــ هُ: (دل، ہمت، جوش و لولہ) کو تازہ کرنا، میں روح پھونکنا، ہمت بندھانا، جوش دلانا۔ رَيَّحَ ہ: کو آرام دینا، کا دل بہلانا، کی بے چینی دور کرنا، کو آرام اور تفریح پہنچا کرنا۔ ــــ عَ: آنکھوں کو آرام پہنچانا۔ رَوَّحَ عن نفسه: تفریح پانا، اپنا دل خوش کرنا، جی بہلانا۔ رَاوَحَ ہ: شام کے وقت کسی کے پاس جانا۔ ــ بين (دو چیزوں) کو باری باری کرنا، بدلنا۔ اَرْوَحَ بدبودار ہونا، متعفن ہونا، سے بدبو نکلنا۔ اَرَاحَ: کو آرام دینا۔ ــــ ہ کو رہنے دینا۔ ــ ہ من: کو سے بچانا، محفوظ رکھنا، نجات دلانا۔ ــــ ہ: (دل وغیرہ) کو تسکین پہنچانا۔ ــــ ہ من: کو سے دور کرنا، چھٹکارا دلانا، کے لئے کسی چیز کی شدت کم کرنا۔ ــ ہ: سے نیکی کرنا۔ ــ ہ ب: کو سے خوش کرنا۔ اَرَاحَ نفسَهُ من: سے تفریح پانا، سے آرام کرنا۔ تَرَوَّحَ بالمروحة: اپنے آپ کو پنکھا کرنا، پنکھا جھلنا۔ تَرَاوَحَ بين: کے مابین: بدلتے رہنا، باری باری ہونا، بدلنا یا مختلف ہونا، کے درمیان یا کے بیچ میں ہونا یا آنا۔ اِرْتَاحَ من: سے آرام پانا۔ ــ آرام کرنا، تفریح پانا۔ ــ اِلى: سے مطمئن ہونا، خوش ہونا، متفق ہونا، پر رضامندی ظاہر کرنا۔ ــــ ل/الى: کو پسند کرنا۔ ــــ ل/الى: کے بارے میں خوش ہونا۔ ارتاح للمعروف: مہربانیاں کرنے کو پسند کرنا، کارآمد یا مددگار ہونے پر خوش ہونا۔ اِسْتَرْوَحَ: سانس لینا۔ ــ ہ: کو سونگھنا، کی ناس لینا۔ ــــ الى: سے تازہ دم ہونا۔ ــــ اِسْتَرَاحَ: خاموش ہونا، خاموش ہو جانا، آرام پانا، آرام لینا، سے تازہ دم ہونا۔ ــ من: سے آرام کرنا، سے نجات پانا، بچ جانا، سے چھٹکارا پانا۔ ــــ اِلى: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، کے بارے میں خوش ہونا، پر اطمینان یا خوشی محسوس کرنا یا پر اطمینان و خوشی کا اظہار کرنا۔ راح: شراب۔ ريح (مونث کبھی کبھی مذکر) جمع رياح و اَرْوَاح و اَرْيَاح: ہوا، گوز، پاد، بو۔ اَبُو رِيَاح: بادنما، سمت نما، مرغ بادنما، ڈراونا پتلا جو پرندوں اور جانوروں کو بھگانے کے لئے کھڑا کیا جائے۔ سَكَنَتْ رِيحُهُ: مر جانا، متروک ہو جانا، بھلا دیا جانا، فراموش ہو جانا۔ هَبَّتْ رِيحُهُ: فارغ البال ہونا، آسائش اور مزے سے ہونا، خوش نصیب ہونا۔ ذَهَبَ مَعَ الرِيح: غائب ہو جانا، کافور ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ رَيِّح ہوادار، بڑی ہوا والا۔ رُوح (مذکر و مونث) جمع اَرْوَاح: زندگی کا سانس، روح،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جان، شخص، تنفس، بندوق کی نالی۔ رُوحُ القُدُس اور الرُّوحُ القدس: جبریل، روح الامین (عیسائیوں کے نزدیک) تثلیث کا تیسرا شخص۔ لا رُوحَ فیہ: بے ہمت، افسردہ، پژمردہ، مضمحل، پھیکا، بے مزہ، بے لطف، بے کیف، بے مغز، بے عقل۔ خفیفُ الروح: پسند خاطر، مرغوب، پسندیدہ، ملنسار، خوش خلق، قابل محبت، دلکش، دلآویز۔ ثقیل الرُوح: کند ذہن، کودن، سادہ لوح، بیزار کن، کان کھاؤ، ناگوار (شخص)۔ طویلُ الروح: صابر، صبر سے برداشت کرنے والا۔ حِرْصًا علی الأرْوَاح: خطرہ! (تنبیہی نشان)۔ رُوحِیّ: نشہ آور، روحانی، دینی، مذہبی، جمع روحیات: روحانی اشیاء۔ حالةٌ روحِیةٌ: ذہن کی حالت یا مزاج۔ مشروباتٌ روحِیةٌ: مسکرات، تیز شرابیں۔ رَوْح: نقل، چائے وغیرہ۔ رَوْحَة جمع روحات: شام کو کیا جانے والا سفر یا سہ پہر کا سفر۔ رَاحَة: آرام، سکون، تفریح، آسائش، چین، سہولت، آسانی، فرصت، تعطیلات، آرام تسکین، تسلی، تشفی (جمع راحات و رَاح): ہتھیلی، ہاتھ۔ بالراحة: آرام سے، اطمینان سے، آہستہ، آسانی سے، نرمی سے۔ بکل راحة: آرام سے، آسانی سے، آسانی کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ بیتُ الراحة: بیت الخلاء، پاخانہ۔ اسباب الراحة: پرتکلف چیزیں، تکلفات۔ مُعِدَّاتُ الراحة: آسائشیں۔ فترةُ الراحة: آرام، مختصر وقفہ، وقفہ، آدھی چھٹی۔ راحةُ الحُلقُوم: ایک ترکی میٹھا کھانا۔ راحةُ الید: ہتھیلی، کف دست۔ راحة القدم: (پاؤں کا) تلوا۔ رِیحَة: بُو۔ رُوحِیَة: روحانی وجود، ذہنیت، رجحان، افتادِ طبع، ذہنی قابلیت، ذہنی رویہ، مزاج۔ رَوَاح: روانگی، جانا، چھوڑ جانا، واپسی، واپسی کا سفر، آرام، سکون۔ فی غُدُوِہ و رَوَاحِہ: آتے جاتے مراد: ہر اس کام میں جو اس نے کیا۔ رَیَّاح جمع رَیَّاحات: بڑی آبپاشی کی نہر۔ (مصر کے نظام آبپاشی میں) بڑی نہر۔ أرْوَح: زیادہ تسکین دہ، زیادہ تسلی بخش۔ أرْیَحِی: سخی، فیاض، فراخ دل، أرْیَحِیَة: سخاوت، فیاضی، فراخ دلی، بڑی سخاوت۔ رَیْحان: (اسم جنس): شیریں ناز بو، کالی تلسی، ریحان جمع رَیَاحِین: خوشبودار یا مہک دار پودے۔ قلمُ الرَّیْحان یا القلم الرَّیْحانی: عربی خطاطی کا ایک انتہائی آرائشی اسلوب۔ رُوحَانِیّ: روحانی، غیر مادی، خدائی، مقدس پاک۔ (جمع روحانیون): پادری۔ روحانیة: روحانی وجود، تبدیلی ہیئت۔ مَرَاح: وہ جگہ جہاں شام کو جاتے ہیں۔ مُرَاح نیز مَرَاح: چراگاہ، دن کے وقت کی چراگاہ۔ مِرْوَحة جمع مَرَاوِح: پنکھا، روشندان، بحری یا ہوائی جہاز کو چلانے کا ایک آلہ propeller۔ المِروَحَة الخُوص: کھجور کے پتے کا پنکھا۔ مِروَحَةُ الخَیْش: کینوس کا پنکھا جو چھت سے لٹکایا جاتا ہے اور کمرے کو ہوا دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مِرْوَاح: پنکھا، روشندان۔ مِرْیَاح: اپھار یا نفخ پیدا کرنے والی (خوراک، کھانا)۔ تَرْوِیح: ہوا دینا، ہوادار بنانا، نقل چائے وغیرہ، تفریح۔ (الترویح عن النفس بھی اسی آخری معنی میں ہے)۔ تَرْوِیحَة: ترویحةُ نفس: سیر، چہل قدمی، ہوا خوری۔ صلاة التراویح: رمضان کے مہینہ کی راتوں میں ادا کی جانے والی نماز۔ تَرْیِیح: نصب کرنا، تنصیب، ڈالنا، شامل کرنا۔ اِرْتِیَاح: اطمینان، تسکین، خوشی، مسرت۔ اِستِرْوَاح: ہوادار بنانا، ہوا کی مقدار، سانس لینا، سانس۔ اِستَرَاحَة: آرام، سکون، تفریح جمع استراحات: آدھی چھٹی، وقفہ (مسافروں کے لئے) آرام گاہ۔ رَائِح: رائحٍ و غادٍ: بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور واپس آجانے والا، ٹہلنے، چہل قدمی کرنے والا۔ رائحة جمع رَوَائِح: بُو، خوشبو، (جمع روائح) عطریات، خوشبوئیں، خمیر، خمیر کرنے والے سفوف۔ مُرِیح: آرام دہ، پرسکون، تسکین دہ، تسلی بخش، گرم اور آرام دہ، نفخ کرنے والا۔ کُرسِیٌّ مُرِیحٌ: بازوؤں والی کرسی، بازو دار کرسی، بڑی آرام دہ کرسی۔ مُرْتَاح: آرام کرنے والا، پرسکون، مطمئن، خوش۔ مُرتاح البال: پرسکون۔ مُرْتَاحُ الضمیر: پرامن ذہن والا، ضمیر کی خلش سے خالی۔ مُستَرِیح: آرام دہ پرسکون، مطمئن۔ مُستراح: بیت الخلا، پاخانہ۔

راد: ۱۔ رَادَ رَوْداً و رِیَاداً الارضَ: کسی زمین میں چراگاہ اور پانی وغیرہ کی تلاش کرنا کہ کیا وہ پڑاؤ وغیرہ کے لئے مناسب ہے یا نہیں۔ ۔ الشیءَ: کو طلب کرنا۔ ۔ قومَہُ مرعیً او منزلاً: قوم کے لئے چراگاہ یا منزل کی تلاش کرنا۔ ۔ رَوَدَاناً و رِیَاداً: کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا۔ ۔ ت الإبلُ: اونٹوں کا آتے جاتے مختلف چراگاہ اختیار کرنا۔ ۔ رَوْداً و رَوَدَاناً ت المراۃُ: عورت کا اپنے ہمسایوں کے گھر زیادہ آنا جانا۔ ۔ ت الماشیةُ: مویشی کا چرنا۔ رَوَّدَہُ: کو طلب و جستجو پر اکسانا۔ رَاوَدَ مُرَاوَدَةً و رِوَادًا ہُ: کو چاہنا۔ ۔ ہُ عن و علی نفسِہِ: کو دھوکا دینا، گناہ کی ترغیب دینا۔ ۔ علی کذا: کا ارادہ کرنا۔ أرَادَ إرَادَةً الشیءَ: کو چاہنا، کی خواہش کرنا، کی رغبت کرنا۔ ۔ ہُ علی الامر: کو کسی امر پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔ اِرْتَادَ اِرتیاداً الشیءَ: کو طلب کرنا۔ اِستَرَادَ الرجلُ: ادھر ادھر پھر کر روزی کی تلاش کرنا۔ ۔ ت الدابةُ: جانور کا چرنا۔ الراد: بمعنی الرائد۔ الرِید: طلب، تلاش۔ الرَائِد (فا) جمع رَادَة و رُوَّاد و رَائِدُون: وہ شخص جس کو قوم پڑاؤ تلاش کرنے کے لئے بھیج دیتی ہے۔ جاسوس، چکی کا دستہ۔ رائدُ العین: آنکھ میں کھٹکنے والا خس و خاشاک۔ کہا جاتا ہے: ھو رَائِدُ الوِسَاد: وہ غم کی بے کلی کی وجہ سے غیر مطمئن ہے۔ الرائدة والرَائِدَة و الرُوَادَة: اپنی پڑوسنوں کے گھروں میں بہت آنے جانے والی عورت۔ المَرَاد: چراگاہ میں اونٹوں کی آمد و رفت کی جگہ۔ المِروَد جمع مَرَاوِد: چرخی کا دھرا، لگام کے حلقے کا لوہا، میخ۔ (حسی): لوہے یا لکڑی کا ٹکڑا جو جسم کے وسط میں گذارا جاتا ہے تا کہ اس جسم کو اپنے گرد گھمائے، سرمہ کی سلائی۔ المُستراد: چراگاہ میں اونٹوں کی آمد و رفت کی جگہ۔ مُستَرادُ الرجل: آدمی کے گھومنے پھرنے کی جگہ۔ المَرَاوِید: وہ جگہیں جہاں جانور آتے جاتے ہیں۔

۲۔ رَادَ رَوْداً وَ رَوَدَاناً ت الریحُ: ہوا کا نرم چلنا۔ أرْوَدَ إرْوَاداً و مَرْوَاداً و مُرْوَداً و رُوَیْداً و رُوَیدِیَةً فی السیر: نرم رفتار سے چلنا، آہستہ چلنا۔ اِستَرَادَ: فرماں بردار ہونا، مطیع ہونا۔ ۔ لِأمرِ اللّٰہِ: حکم خداوندی کے سامنے جھک جانا اور اس کی طرف لوٹ جانا۔ الرُوْد: کہا جاتا ہے: امشِ علی الرُوْد: ہلکے چلو۔ الرَوْد (مص): کہا جاتا ہے: رِیحٌ رَوْدٌ و رائِدَةٌ: نرمی سے چلنے والی ہوا۔ رُوَیْد: أرْوَدَ کا مصدر مصغر ہے۔ کہا جاتا ہے: رُوَیداً زیداً: زید! آہستہ۔ رویدا یہاں مصدر ہے۔ رُوَیدَكَ زیداً و رُوَیدَ زیدٍ: زید کو مہلت دو، یہاں یہ اسم فعل ہے اور کاف حرف خطاب ہے جس کے اعراب کا کوئی محل نہیں۔ کبھی اضافت سے محل جر میں بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ساروا سَیرًا رُوَیداً و ساروا رُوَیداً: وہ نرمی سے یا آہستہ آہستہ چلے، یہاں یہ صفت ہے، حال کے طور پر بھی آتا ہے جیسے اس قول میں: سار القومُ رُوَیداً: لوگ آہستہ آہستہ چلے۔ یہاں رُوَیداً بمعنی متمھلین ہے۔ الأرْوَد: اپنے کام میں آہستگی کرنے والا۔ کہتے ہیں: الدھرُ أرْوَد ذو غِیَر: زمانہ سکون سے کام کرتا رہتا ہے کسی کو اس کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پتہ ہی نہیں چلتا۔ الدھرُ اَوْرَدُ مُسْتَبِدّ: زمانہ معاملہ میں نرم اور اپنے امر میں برتر ہے۔

۳۔ الرادار: راڈار، لاسلکی آنکھ (radar)۔ الراديو: ریڈیو (radio)۔ الرَادِيُوم (ك) ریڈیم: ایک تابکار دھات (radium)۔

۴۔ الرَاديكالي: یکسر تبدیلی (یا بنیادی تبدیلیوں) کا حامی radical۔ الرَادِيكَالِيَّة: انقلابی سیاست، بنیادی تبدیلیوں کی حمایت پر مبنی سیاست (radicalism)۔

○ رَادَ ـ رَوْداً: ادھر ادھر پھرنا، پھرتے رہنا، ڈھونڈتے پھرنا، کوچہ گردی کرنا۔ ــــ ہ: کو ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا۔ رَاوَدَہ علي: کو کے لئے ہمنوا بنانا، چاہنا، کو کچھ کرنے پر اکسانا، ورغلانا، ترغیب دینا۔ ــ ہ: کے قریب ہونا، کے پاس آنا۔ ــــ ہ عن: کو سے برگشتہ کرنا چاہنا، کو ورغلا کر سے ہٹانے کی جستجو کرنا۔ ــــ ھا: کسی عورت کو عصمت لٹانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ رَاوَدَہُ عن نفسہ: کو پھسلانے اکسانے یا ترغیب دینے کی کوشش کرنا۔ اَرَادَ ہ: کو چاہنا۔ ــ ان: کو کرنا چاہنا، کو کرنے کی خواہش کرنا، کو کرنے پر رضامند ہونا، کو کرنے کا ارادہ رکھنا، ــــ ہ: کو حاصل کرنا چاہنا، کی خواہش کرنا، کی تمنا یا حرص کرنا، کے لئے جانفشانی کرنا، بے حد کوشش کرنا، کی طرف جانا، بڑھنا، کی طرف روانگی کے لئے تیار ہونا، کا ارادہ کرنا، عزم کرنا، کو مدنظر رکھنا۔ ــ ان: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ ــــ من ہ/الي: کے ساتھ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ـ من ہ: سے کی غرض ہونا، کا مقصد ہونا، دل میں کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کا واضح خیال ہونا۔ ـ اِلي من: کا سے مطلب ہونا یا منشا ہونا۔ ـ ہ/الي: کو حاصل کرنے یا کرنے کی کوشش کرنا، پر تلا ہونا۔ ــــ ہ/ ہ ب: کا سے مطلب ہونا۔ ــــ ہ ب: کو کے ساتھ موزوں خیال کرنا۔ ــ ہ ب: کسی کے لئے یا کسی کے خلاف (منصوبہ) بنانا۔ ــ ہ ب: کچھ کرنے کا کسی کے ساتھ ارادہ کرنا یا پروگرام بنانا۔ ــ ہ/ان: کچھ کرنے کو ہونا۔ ــ ہ علي: کو کچھ کرنے پر اکسانا، آمادہ کرنا، راغب کرنا، پر کچھ کرنے کے لئے زور دینا۔ اَرَادَ بہ أن: اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ۔ اراد بہ خیراً: کے لئے اچھی تمنا ظاہر کرنا۔ اَرَادَہُ علی ان: کسی کو کچھ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اَرَادَ العاصمة: وہ دارالحکومت کی طرف جانے والے راستہ پر تھا۔ اَرَادَ نفسَہُ علي الشيء: اس نے خود کو کوئی کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اِرْتَادَ ہ: کسی جگہ جانا، (جگہ) کی سیاحت کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا۔ رَوْد: سیاحت، گہرا مطالعہ، غور وخوض۔ رِيَادَة: سیاحت، گہرا مطالعہ، غور وخوض۔ رُوَيْداً: آہستہ، نرمی سے آہستگی سے، دھیمے سے، اطمینان سے، آرام سے۔ رُوَيْداً رُوَيْداً: بتدریج، آہستہ، تھوڑے عرصہ میں۔ رُوَيْدَكَ: آہستہ، گھبراوٴ مت، دلجمعی سے کئے جاوٴ۔ مِرْوَد جمع مَرَاوِد: سرمئی قلم، موقلم، سرمہ کی سلائی۔ اِرَادَة: نیت، مرضی، پسند، قوت ارادی، اختیار، خواہش، آرزو، تمنا، منشا، مراد، مطلب، رغبت۔ (جمع ارادات)، (حاکم کا) حکم، فرمان، قوت ارادی۔ حَسَبَ الارادة: حسب مرضی، جب چاہے۔ اِرَادِيّ: خودسر، ضدی، دانستہ، قصداً کیا ہوا، رضاکارانہ۔ اِرْتِيَاد: (کسی جگہ) جانا، سیاحت، گہرا مطالعہ، غور وخوض۔ رَائِد جمع رُوَّاد: کسی جگہ آنے والا، مخبر، نگران، سکاوٴٹ، دیکھ بھال کرنے والا، بوائے سکاوٴٹ، سیاحت کرنے والا، رہنما، میجر، اصول اخلاق، راہنما اصول، (طرز عمل کا) ضابطہ۔ مُرِيد جمع مُرِيدُون: (تصوف کا) اناڑی، نوآموز، (عروج وترقی کا) آرزومند، متمنی، حامی، حمایتی، وابستہ، وابستہ دامن، پیرو، ہوا خواہ، طرف دار، متبع، مرید، چیلا، شاگرد۔ مُرَاد: چاہا گیا، خواہش کیا گیا، ارادہ کیا ہوا، منصوبہ، مقصد، غرض، غایت، ارادہ، مطلب، مدعا، منشا۔

رود: الرَوَنْد و الرِوَنْد و الرَوَاند (ن): ریوند چینی (rhubarb)۔ (ایک پودا جس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، کھایا جاتا ہے اس کا طبی خاصہ یہ ہے کہ قبض کشا ہے اور معدہ کو تقویت دیتا ہے)۔

○ رُودُس: Rhodes (جزیرہ کا نام)

○ رُودِيسِيَا: Rhodesia (ملک کا نام)۔

راز: ا۔ رَازَ ـ رَوْزًا الحجرَ: پتھر کو تول کر معلوم کرنا کہ کتنا بھاری ہے۔ ــــ الدينارَ: دینار کو تول کر اسکی مقدار معلوم کرنا۔ ــــ الرجلَ: مرد کو آزمانا۔ رَوَّزَ الكلامَ او الرایَ: کلام یا رائے پر تھوڑا تھوڑا کر کے غور کرنا تا کہ اس کی قدر و قیمت کا اچھی طرح اندازہ کیا جاسکے۔ رَازَىٰ ہُ: کو آزمانا۔ یہ راوزہ کا مقلوب ہے۔ الراز جمع رازة: معماروں کا سردار، اس کی اصل رائز ہے۔ جیسے شاكٍ و شائك۔ الرِيَازَة: معماری۔ المَرَاز و المَرَازَة: وزن اور مقدار۔

۲۔ رَازَ ـ رَوْزًا الارضَ: زمین پر قیام کر کے اصلاح کرنا، زمین کو قابل کاشت بنانا۔

۲۔ رَازَ ـ رَوْزًا ما عِنْدَہُ: کسی کے پاس کسی چیز کو طلب کرنا۔

marfat.com

۴۔ الرازِي: رے (شہر) کی طرف منسوب، رے (شہر) کا باشندہ۔ المَرَازَان: پستان (دونوں)۔ الرُوَيْزِي: سر اور کندھوں پر اوڑھنے کی چادر، (طیلسان جمع طیالسة)۔

۵۔ الروزنامَة: تقویم، جنتری، روزنامچہ، روز بمعنی دن اور نامہ بمعنی کتاب ہے، فارسی لفظ ہے۔

○ رَازَ ـ رَوْزًا ہ: کا وزن کرنا، کو تولنا، کو جانچنا، کی جانچ پڑتال کرنا، پر غور کرنا۔ رُوْزْنَامة: تقویم جنتری (almanac)۔

راس: ا۔ رَاسَ ـ رَوْسًا: متکبرانہ چال سے چلنا۔

۲۔ رَاسَ ـ رَوْسًا: زیادہ کھانا۔ اِسْتَرَاسَ: کھانا طلب کرنا۔ الرَوْس (مص): زیادہ کھالینا، بسیار خوری۔

۳۔ رَاسَ ـ رَوْسًا السيلُ الغُثاءَ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ بہالے جانا۔ الرَوَائِس: اگلے بادل۔ رَوَائِس الأَوْدِيَة: وادیوں کی چوٹیاں۔

۴۔ الرَوْس: عیب، آدمی۔ کہا جاتا ہے: اِنَّہُ روسُ سوءٍ: وہ برا آدمی ہے۔

○ رَوَّسَ (راس سے) ہ: کو نوکدار بنانا، کو تیز کرنا، کو گاوٴدم بنانا، (مضمون، کتاب) کا عنوان لگانا، کی سرخی جمانا۔ تَرْوِيسَة: عنوان، سرخی۔

○ مِرْواس: دوڑنے کی سڑک۔ مَرَاوِيس: دوڑ کے گھوڑے۔

○ الرُوس: روسی لوگ۔ رُوسي: روسی، روس کا، روس کے متعلق۔ الرُوسِيَة: روسی زبان۔ رُوسِيا: روس (ملک)۔

○ رَوْسْتُو و لَحْمُ روستو: تلا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت، کباب۔

راش: رَاشَ ـ رَوْشًا: زیادہ کھانا۔ ــــ ہُ المرضُ: بیماری کا کسی کو کمزور کردینا۔ الرَاش مِن الجمال او الرماح: کمزور اونٹ یا نیزہ۔ یہ رَائِش کا مخفف ہے جس کی مونث راشة ہے۔ الرَوَش: عقل کی کمی۔ الأَرْوَش مونث رَوْشاء: کم عقل۔

○ رَوْشَنَ جمع رَوَاشِن: سقفی روشندان، ہوادان، موکھا۔

راص: رَاصَ ـ رَوْصًا: بیوقوفی کے بعد سمجھدار ہونا۔

راض: ا۔ رَاضَ ـ رَوْضًا ورِيَاضَةً و رِيَاضًا المُهْرَ: بچھیرے کو سدھانا، رام کرنا، چلنا سکھانا صفت: فاعلی رَائِضٌ جمع رَاضَةٌ و رُوَّاضٌ ورُوَّضٌ و رائِضُون: صفت مفعولی: مَرُوضٌ مونث مَرُوضَة: (یعنی بچھیرا جسے سدھایا جائے، رام کیا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جائے اور چلنا سکھایا جائے)۔ رَوَّضَ المُهْرَ بچھیرے کو خوب سدھانا۔ رَاوَضَ هُ علی الأمر بہلا پھسلا کر کسی کو کسی کام پر لگانا۔ تَرَاوَضَ الرَّجُلان فِی البیعِ و الشِّراءِ دو مردوں کا خرید و فروخت کے معاملہ میں آپس میں جھگڑنا۔ ـــ القومُ فی الامر لوگوں کا کسی معاملہ میں آپسمیں مناظرہ کرنا۔ اِرْتَاضَ المُهْرُ بچھیرے کا سدھ جانا۔ کہا جاتا ہے: ارتاضت القوافی الصعبة للشاعِرِ مشکل قافیے شاعر کے مطیع ہو گئے۔ الرَّیِّض وہ جانور جس کو سدھانا شروع کیا گیا ہو۔ (مذکر و مؤنث اس میں برابر ہیں)۔ أَمْرٌ رَیِّضٌ غیر محکم کام، کم تدبیر سے کیا ہوا کام۔ الرِّیَاضَة (مص) جسمانی ورزش۔ بری حالت سے اچھی حالت کیطرف تبدیلی، نفسانی اخلاق کی اصلاح و درستی، عبادت و مراقبہ کے لئے عزلت گزینی و گوشہ نشینی۔ العِلْمُ الرِّیَاضِیّ و عِلْمُ الرِّیَاضِیَّات علم حساب، الجبرا، جومیٹری وغیرہ۔

۲- رَوَّضَ الرجلُ باغوں میں رہنا۔ ـــ المطرُ الارضَ بارش کا زمین کو باغ و بہار کر دینا۔ اَرَاضَ اِرَاضَةً سیراب ہونا۔ ـــ المکانُ کسی جگہ میں باغات بکثرت ہونا۔ ـــ القومَ لوگوں کو سیراب کرنا۔ ـــ اللّٰهُ الارضَ اللہ تعالیٰ کا زمین کو مختلف قسم کی نباتات سے ہرا بھرا کر دینا۔ ـــ الحوضُ پانی کا حوض کی تہہ کو ڈھک لینا۔ اَرْوَضَ المکانُ کسی جگہ کا سبزہ سے ڈھک جانا اور بکثرت باغوں والی ہونا۔ ـــ ت الارضُ من المطرِ زمین کا بارش سے تر ہونا۔ اِسْتَرَاضَ اِسْتِرَاضَةً المکانُ کسی جگہ کا بکثرت باغات والی ہونا، پانی سے ڈھک جانا، کشادہ ہونا۔ ـــ ت النفسُ دل کا خوش ہونا۔ الرَّوْض (ز) قسم قسم کے پودوں سے سرسبز جگہ۔ الرَّوْضَة جمع رَوْض و رِیَاض و رَوْضَات رِیْضَان (ز) قسم قسم کی نباتات سے سرسبز جگہ، باغ، حوض میں بچا ہوا پانی۔ کہا جاتا ہے: فی الحوضِ روضةٌ مِنَ الماءِ حوض کی زمین پانی سے چھپی ہوئی ہے۔ رَوْضَةُ الأَطْفَال ننھے بچوں کا سکول جہاں انہیں گیموں، کھلونوں وغیرہ سے تعلیم دی جاتی ہے، ۲ یا ۳ سے ۵ سال کے بچوں کا سکول۔ رَوْضَاتُ الجنّات باغوں کی پر بہار جگہیں۔ الرِّیْضَة: بمعنی رَوْضَة۔ الرَّیِّضَة روضہ۔ المَرَاض جمع مَرَابِض و مَرَاضَات نرم پست زمین میں سخت جگہ جو پانی کو روک لے۔ نَبَاتٌ مُسْتَرَوِضٌ بہت بڑا اور لمبا پودا۔ اَرْضٌ مُسْتَرَوِضَة اچھی نباتات اگانے والی زمین۔

⊙ رَاضَ ـُ رَوْضًا و رِیَاضَةً ه جانور کو پالتو بنانا، رام کرنا، سدھانا، تربیت دینا۔ ـــ ه کو تربیت دینا، کی تربیت کرنا، کو تعلیم دینا، ٹھنڈا کرنا، کا غصہ ٹھنڈا کرنا۔ رَاضَ نفسَهُ علی کی مشق کرنا، کی عادت ڈال لینا، کی مزاولت کرنا، کی ورزش کرنا۔ رَوَّضَ بمعنی رَاضَ ه نیز رَوَّضَ ه دریا وغیرہ کو رام کرنا، کو نظام کے تحت لانا۔ رَاوَضَ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، کو قائل کرنے کی کوشش کرنا۔ تَرَوَّضَ مشق کرنا، ورزش کرنا۔ تَرَیَّضَ سیر کرنا، پھرنا، چہل قدمی کرنا، جسمانی ورزش کرنا، کھیلوں میں حصہ لینا، شریک ہونا۔ تَرَاوَضَ (قیمت وغیرہ پر) ایک دوسرے سے بول تول کرنا، سودا کرنا، معاملہ طے کرنا۔ اِرْتَاضَ مشق کرنا، ورزش کرنا۔ ـــ ب میں تربیت حاصل کرنا۔ ـــ سیر کرنا، چہل قدمی کرنا۔ اِسْتَرَاضَ خوش ہونا یا ہو جانا، خوش باش ہونا یا ہو جانا۔ رَوْضَة جمع رَوْض و رَوْضَات و رِیَاض و رِیضان باغ، سبزہ زار، مرغزار۔ رَوْضَةُ الأَطْفال جمع ریاض الاطفال کنڈرگارٹن، نرسری سکول۔ الرِّیَاض (سعودی عربیہ کا دار الحکومت): ریاض۔ رِیَاضَة جمع رِیَاضَات: مشق، ورزش، جسمانی ورزش، جسمانی کرتب، ورزشی کرتب، کھیل (ورزشی)، سیر، گلگشت، چہل قدمی، گشت کرنا، پھرنا، آرام، مراقبہ۔ رِیَاضَات مذہبی مشقیں، عبادات، پوجا پاٹ، ریاضی، ریاضیات۔ رِیَاضَة نفسیة چہل قدمی، سیر، گلگشت۔ الرِّیَاضَة البَحْتَة خالص ریاضی، ریاضیات۔ الریاضة التطبیقیة عملی ریاضیات۔ ریاضة عقلیة عقلوں کی ورزش، عقلی کھیلیں۔ رِیَاضِیّ کھیلوں کا، کھیلوں کے متعلق، کھیلوں پر مائل، خوش طبع۔ (جمع ریاضیون) کھلاڑی، کھیل کا شوقین، علم ریاضی کی رو سے، ریاضی کے متعلق۔ أَخْبَارٌ رِیَاضِیَّة: کھیلوں کی خبریں۔ مُرَاسِلٌ رِیَاضِیٌّ کھیلوں کا رپورٹر۔ الالعاب الریاضیة (ورزشی) کھیلیں دوڑ کود کے مقابلے۔ رِیَاضِیَّات: علم ریاضی، ریاضیات، مقدار، فاصلہ اور وقت کا حساب۔ تَرْوِیض دوڑ کود کے مقابلے۔

راط: رَاطَ ـُ رَوْطًا و رِیَطًا بالمکان: کسی جگہ پناہ لینا۔

راع: رَاعَ ـُ رَوْعًا و رُؤُوعًا منه سے گھبرانا، ڈرنا، صفت: رائِع و رَوِع ـــ هُ الامرُ کو کسی بات کا ڈرا دینا، گھبرا دینا۔ کہا جاتا ہے: ما راعنی الا قدومُكَ مجھے صرف تمہارا آنا محسوس ہوا۔ رِیعَ فلانٌ کسی کا خوف زدہ ہو جانا۔ رَوَّعَ و اَرَاعَ هُ کو گھبرا دینا، ڈرانا۔ اَرْوَعَ اِرْوَاعًا الراعی بالغنم چرواہے کا بکریوں کو ڈانٹنا، للکارنا۔ تَرَوَّعَ منه و لهُ سے ڈرنا۔ اِرْتَاعَ منه و لهُ سے ڈرنا۔ الرُّوْع دل کا سیاہ داغ یا اس میں ڈر کی جگہ۔ (کہا جاتا ہے: اَفْرِخْ رُوْعَكَ سکون (اطمینان ہاتھ سے نہ دو)۔ ذہن، عقل۔ الرَّوْع خوف، ڈر، لڑائی، جنگ۔ الرَّوْعَة ڈر۔ رائعةُ الشیب بڑھاپے کا آغاز۔ المُرَوَّع بہت خوف زدہ، تیز فہم، باریک بین، درست الہام پانے والا۔

۲- رَاعَ ـُ رَوْعًا هُ الامرُ: کسی بات کا کسی کو تعجب میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: هذه شربةٌ راع بها فؤادی اس مشروب سے میرے دل کی سخت پیاس ٹھنڈی ہو گئی۔ رَوِعَ ـَ رَوَعًا زیادہ مسرت بخش ہونا، زیادہ راحت بخش ہونا۔ رَوَّعَ و اَرَاعَ هُ کو تعجب میں ڈالنا۔ اِرْتَاعَ للخبر خبر سے خوش ہونا۔ الرَّوَع الاَرْوَع کا اسم، حسن و جمال اور بہادری سے تعجب میں ڈالنے والا ہونا۔ الرَّوْعَة ڈر۔ حسن و جمال کا حصہ۔ الأَرْوَع جمع رُوْع و اَرْوَاع مؤنث رَوْعَاء: اپنے حسن و جمال یا بہادری کی وجہ سے تعجب میں ڈالنے والا، ہوشیار، ذکی۔ قلبٌ اَرْوَع ڈرپوک دل۔ فلانٌ رُوَاعُ القلب فلاں ہوشیار، ذکی ہے۔ الرَّائِع (فا) جمع رَائِعُون و رُوَّع مؤنث رائعة جمع رَوَائِع و رُوَّع لوگوں کو اپنے حسن و جمال یا بہادری سے تعجب میں ڈالنے والا، حیران کرنے والا۔ کلامٌ رائعٌ خوش گوار کلام۔ رائعةُ النَّهار او الضُّحٰی دن یا چاشت کا بڑا حصہ۔

۳- رَاعَ ـُ رَوْعًا و رُؤُوعًا فی یدی کذا ہاتھ میں مضبوط ہونا۔ فائدہ ہونا۔

۴- رَاعَ ـُ رُوَاعًا لوٹنا، واپس ہونا۔

⊙ رَاعَ ـُ رَوْعًا هُ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، ڈرا کر بھگا دینا، چونکانا، چونکا دینا، کو چوکس یا چوکنا کرنا، کو گھبرا دینا، یکا یک آلینا، یکا یک آ کر گھبرا دینا، کو تعجب میں ڈالنا، کی پسندیدگی کو جگانا، کو بھلا معلوم ہونا، کو اچھا لگنا، کی توجہ مبذول کرنا، کو پسند آنا، کو خوش کرنا، میں جذبات کی لہر دوڑا دینا، کے دل میں اتر جانا۔ ما راعنی الا مجیئُكَ تمہاری آمد میرے لئے مکمل حیرت رہی ہے۔ رَوَّعَ و اَرْوَعَ ه: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، ڈرا کر بھگا دینا، چونکانا، کے لئے احترام کا جذبہ پیدا کرنا۔ تَرَوَّعَ و

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اِرْتَـــاعَ مِـــنْ: سے ڈرنا، خوف زدہ ہونا، چونکنا۔ رَوْعٌ: خوف، ڈر، دہشت، اندیشہ، کھٹکا، حول۔ رُوْعٌ: دل، ذہن، روح۔ هَدِّئْ رُوْعَكَ و سَكِّن رُوْعَكَ: گھبراؤمت۔ اَلْقٰى (اَدْخَلَ) فی رُوْعِه ان: کو باور کرانا کہ، کو یقین دلانا کہ، کو قائل کرنا کہ، کو آمادہ کرنا کہ۔ —— ہ: کی روح پھونکنا، کا جوش پیدا کرنا۔ خَطَرَ بِرُوْعِهٖ: اس کے ذہن میں آیا، کو خیال آیا۔ رَوْعٌ: حسن، جمال۔ رَوْعَةٌ: خوف، دہشت، ڈر، اندیشہ، کھٹکا، ہول جلال، احترام، رعب، اچنبھا، سخت تعجب، حیرانی، حیرت، حیرت کی بات، حسن و جمال، دلفریبی، دلکشی، دلیری، دل آویزی، شان و شوکت، شان وشکوہ، کرّ وفر، رونق اور شان، چمک دمک، آب وتاب۔ اَرْوَعُ: زیادہ حیرت انگیز، زیادہ معجز نما، زیادہ دلکش، زیادہ دلربا، زیادہ دلفریب، زیادہ راحت بخش، زیادہ مسرت بخش، زیادہ پرشکوہ، زیادہ شاندار، زیادہ عمدہ، زیادہ واضح، صاف تر۔ اِرْتِيَاعٌ: ہول، دہشت، اندیشہ، خوف، کھٹکا، صدمہ۔ رَائِعٌ: شاندار، عالیشان، عمدہ، قابل تعریف، قابل ستائش، بہت عمدہ، بہت ہی اچھا، حیرت انگیز، معجز نما، خوب، پرشکوہ، دلکش، دلفریب، دلربا، دل آویز، مسرت بخش، راحت بخش، پرجلال، بارعب، رعب دار، مرعوب کن، اثر آفرین، ہیجان خیز، دل کی طرح صاف۔ فی رائعة النهار: دن دہاڑے۔ فی رائعة شبابه: اپنے عنفوانِ شباب میں۔ الحقيقة الرائعة: واضح سچائی۔ رَائِعَةٌ جمع رَوَائِعُ: ایک مرعوب کن چیز۔ رَوَائِعُ الفن: ادبی شاہکار، فنی شاہکار۔ مُرَوِّعٌ: ہولناک، خوفناک، دہشت ناک، ناگوار، ڈراؤنا۔ مُرِيْعٌ: ڈراؤنا، دہشت ناک، ناگوار، ہولناک، خوفناک، افسوسناک۔ مُرْتَاعٌ: ڈرا ہوا، ہولایا ہوا، دہشت زدہ، گھبرایا ہوا۔

راغ: ۱۔ رَاغَ ـُ رَوْغًا و رَوَغَانًا الصيدُ: شکار کا اِدھر اُدھر جانا۔ —— الرجلُ عن الطريق: مکرو فریب کے طور پر راستہ سے الگ ہوکر (ایسے ویسے) کترا جانا۔ —— اِلی کذا: چپکے سے کسی کی طرف مائل ہونا۔ —— علیه بالضرب: کو مارنے کے لئے ٹوٹ پڑنا۔ رَاوَغَ مُرَاوَغَةً ہ: سے کشتی لڑنا، کو دھوکا دینا۔ —— ہ علی الامر: کو کسی کام پر پھسلانا، ورغلانا۔ —— القومُ: ایک دوسرے کو فریب سے طلب کرنا۔ اَرَاغَ اِرَاغَةً ہ: کو مکروفریب سے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: مازلتُ اُرِيْغُ حاجةً لی: میں اپنی ایک حاجت ابھی تک حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ —— الرجلَ: کو دھوکا دینا۔ —— ہ علی امرٍ و عن امرٍ: کو بہلا پھسلا کر اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تَرَاوَغَا: ایک دوسرے کو فریب دینا، آپس میں کشتی لڑنا۔ اِرْتَاغَ اِرْتِيَاغًا ہ: کو فریب سے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِرْتَاغَ العقابُ الصيدَ: عقاب نے اپنے شکار کے پیچھے اِدھر اُدھر چکر کاٹے۔ طریقٌ رَائِغٌ: ٹیڑھا راستہ۔ الرَّوَاغُ و الرُّوَيْغَةُ: مکروفریب۔ الـرَّوَّاغُ: بہت حیلہ گر، فریبی، لومڑی۔ کہا جاتا ہے: هو ثعلبٌ رَوَّاغٌ و هم ثعالبُ رَوَّاغَةٌ: وہ مکار لومڑی ہے۔ وہ مکار لومڑیاں ہیں۔ الرِّيَاغَة و الرِّوَاغَة: کشتی لڑنے کا اکھاڑہ۔

۲۔ رَوَّغَ اللقمةَ فی الدسم: لقمہ کو چکنائی میں خوب بھگونا، الٹ پلٹ کر چکنائی کو اس میں جذب کرنا۔ تَرَوَّغَ الحمارُ: گدھے کا مٹی میں لوٹنا۔

۳۔ الرِّيَاغُ: سرسبزی۔

رَاغَ ـُ رَوْغًا و رَوَغَانًا: اچانک مڑنا، جھوک کھانا۔ —— من/عن: سے بچنا، اِدھر اُدھر ہٹنا، بچ نکلنا، کے راستے نکل جانا۔ ——: چوری چھپے نکل جانا۔ —— اِلی: کی طرف جانا، روانہ ہونا۔ رَاوَغَ ہ: کے ساتھ بے ایمانی کرنا، دھوکا کرنا، دغا بازی کرنا، دورخی سے کام لینا، کے ساتھ ناجائز طریقے سے لڑنا۔ ——: اِدھر اُدھر ہونا، گھٹیا دھوکے اور فریب میں مشغول ہونا، رویہ بدلتے رہنا۔ رَوَاغٌ: داؤ پیچ، چال، حکمت عملی، تدبیر، ترکیب، استادی، حیلہ، چالبازی، شرارت بھرا فریب۔ رَوَّاغٌ: عیار، مکار، کائیاں، فریبی، چالباز۔ رُوَيْغَةٌ: داؤ، داؤ پیچ، چل، حکمت عملی، تدبیر، ترکیب، استادی، حیلہ، چالبازی، شرارت، بھرا فریب۔ اَرْوَغُ: زیادہ فریبی، زیادہ چالباز، زیادہ عیار۔ رَوَغَان: اچانک مڑنا، جھوک کھانا، اِدھر اُدھر ہٹنا، حیلہ، عذر، حیلہ بہانہ، لیت و لعل، ٹال مٹول۔ مُرَاوَغَةٌ: عیارانہ لین دین، بددیانتی کے تعلقات، ریاکارانہ رویہ، دھوکہ، فریب، دغا، تدبیر، ترکیب، حیلہ، چالبازی، عیاری، چالاکی۔ (جمع مُرَاوَغَات): غلط بیانیاں، ہیر پھیر، حیلے بہانے، دروغ گوئیاں، دھوکے، چالیں، بری حرکتیں۔

راف: رَاَفَ ـَ رَوْفًا: بمعنی رَأَفَ يَرْأَفُ۔ الرَّوْفُ: سکون۔ الرَّوْفَةُ: رحمت۔

راق: ۱۔ رَاقَ ـُ رَوْقًا الشرابُ: شراب کا صاف ہونا۔ رَوَّقَ الشرابَ: شراب کو صاف کرنا۔ الرَّوْق (مص) جمع اَرْوَاق: خالص ... اَلْقٰی علیه اَرْوَاقَهٗ و شَرَاشِرَهٗ ... بولتے ہیں جب یہ کہنا ہو کہ تم فلاں سے بہت محبت کرتے ہو۔ —— من الماء و نحوهٖ: صاف پانی وغیرہ۔ الـرائق جمع رَوْق و رُوْقَة (فا)۔ الـرَّاوُوق: صافی یا چھلنی، وہ برتن جس میں شراب صاف کی جائے، پیالہ۔ المُرَوَّق: صاف کیا ہوا۔

۲۔ اَرَاقَ اِرَاقَةَ الماءَ: پانی بہانا، ڈالنا۔ —— دَمَهٗ: کا خون بہانا یعنی اسے قتل کر دینا۔ الـرَّوْق جمع اَرْوَاق: بارش۔ —— من السحاب: سایہ کی طرح چھایا ہوا بادل۔

۳۔ رَاقَ ـُ رَوْقًا و رَوَقَانًا هُ الشیءُ: کو کوئی چیز پسند آنا، کو چیز کا خوش کرنا، تعجب میں ڈالنا۔ الـرَّوْق من الخيل جمع اَرْوَاق: اچھی ساخت کا خوبصورت گھوڑا۔ —— من الشباب: آغاز جوانی اور جوانی کی بہار۔ الرُّوْقَة: رائق کی جمع: بہت خوبصورت شخص۔ کہا جاتا ہے: غلمان رُوْقَة: حسین لڑکے: (واحد جمع مذکر و مؤنث میں یکساں مستعمل ہے) جیسے: غلام رُوْقَة و جارية روقة و جوارٍ رُوْقَة: (حسین لڑکا، حسین لڑکی، حسین لڑکیاں) الـرَّوْقَة: بہترین حسن و جمال۔ رَيِّقُ کل شیءٍ: ہر چیز کا بہترین حصہ۔ —— الشباب: جوانی کا آغاز اور اس کی بہار، جوانی کی رونق۔ کہا جاتا ہے: کنتُ فی رَيِّقِ زمانی: میں اپنے زمانہ کی ابتداء میں تھا۔

۴۔ رَاقَ ـُ رَوْقًا علیه: فضیلت میں کسی سے زائد ہونا۔ رَوَّقَ بِضاعَتَهٗ: اپنا سامان بیچ کر اس سے اچھا سامان خریدنا۔ الرَّوْق (مص) جمع اَرْوَاق: چیز کی زیادتی، سردار، بہادر۔ الرُّوْقَة: برگزیدہ لوگ۔

۵۔ رَوِقَ يَرْوَقُ رَوَقًا: نیچے کے دانتوں کے مقابلہ میں اوپر کے لمبے دانتوں والا ہونا۔ صفت: اَرْوَق مؤنث رَوْقَاء جمع رُوْق۔ الرَّوَق: اوپر کے دانتوں کا لمبا ہونا، جو عیب شمار ہوتا ہے۔ الأَرْوَق: اوپر کے لمبے دانتوں والا۔

۶۔ رَوَّقَ و اَرْوَقَ الليلُ: رات کا تاریکی پھیلانا۔ رَوَّقَ البيتُ: گھر کا سائبان تیار کیا جانا۔ رَاوَقَ مُرَاوَقَةً ہ: ایک دوسرے کے مقابل برآمدے رکھنا۔ کہا جاتا ہے: هو مُرَاوِقی: اس کا برآمدہ میرے برآمدے کے سامنے ہے۔ الـرَّوْق جمع اَرْوَاق: پردہ، شکاری کی جگہ، خیمہ (کہا جاتا ہے: ضرب رَوْقَهٗ بمنزل کذا: وہ فلاں جگہ اتر کر خیمہ زن ہوا)۔ —— من البيت: سائبان، اگلا حصہ۔ —— من الليل: رات کا ایک پہر۔ —— من السحاب: سائبان کی ... اَلقت السحابة ...

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اَرْوَاقها: بادل بہت زور سے برس پڑا۔ کہا جاتا ہے:
رَمَی بِأَرْوَاقِہِ علی الدابَّۃِ: وہ جانور پر سوار ہوا۔
اَلْقَی بِأَرْوَاقِہِ عن الدابۃ: وہ جانور سے اترا۔
اَلْقَی ارواقہُ: وہ تیز دوڑا، بااطمینان کے ساتھ کسی
جگہ اقامت کی (ضد)۔ داھیۃ ذاتُ رَوْقَیْنِ:
بڑی مصیبت۔ الرُوَاق و الرِوَاق جمع اَرْوِقَۃ و
رَوَاقات و رُوْق (ب): برآمدہ، سائبان یا گھر سے
آگے چھت سے نیچے تک چھوڑا ہوا پردہ۔ رِوَاقُ
العین: ابرو۔ ـــ اللیل: رات کا اگلا حصہ۔ ـــ
السلامۃ (ا ع): لشکر کے قافلوں کے دفاع اور
بچانے کے لئے کی جانے والی موثر عسکری تدابیر و
ذرائع۔ بَیْتٌ مُرَوَّقٌ: سامنے پردہ چھوڑا ہوا مکان۔
۷۔ رُوْقُ الفرس جمع اَرْوَاق: وہ نیزہ جو گھوڑے
کے کانوں کے درمیان رکھا ہو، ایسی حالت میں
گھوڑے کو ازرق کہتے ہیں۔ الرَوْق جمع اَرْوَاق:
عمر، جسم، جماعت (کہا جاتا ہے: جاء رَوْقُ بنی
فلان: فلاں قبیلہ کی جماعت آئی۔) سینگ۔ الأَرْوَق:
سینگ دار، سینگ والا۔
○ رَاقَ ـُ رَوْقًا: (سیال چیز کا) صاف ہونا، پاک ہونا۔
ـــ علی: (کسی چیز یا شخص) سے بڑھ جانا، بازی
لیجانا، پر سبقت لیجانا، سے برتر ثابت ہونا۔ ـــ ہ/ ل/
فی عینہ: کو خوش کرنا، کو پسند آنا، کو بہت اچھا لگنا۔
رَوَّقَ ہ: (سائل) کو صاف کرنا، پاک کرنا، فلٹر کرنا،
مقطر کرنا۔ ـ دمہُ: (مشروب کا) کسی کو تازہ دم کرنا۔
ـ: کو ٹھنڈا کرنا، تسلی دینا، مطمئن کرنا۔ رَوَّقَ البضاعۃَ:
تمام سامان کم قیمت پر بیچ دینا (دوکان مستقل طور پر بند
ہونے سے قبل)۔ اَرَاقَ ہ: (سیال کو) بہانا، گرانا۔
اَرَاقَ ماءَ وجھہ: اپنی عزت قربان کر دینا، منہ
دکھانے کے قابل نہ رہنا، حقیر و بے عزت ہو جانا۔
تَرَوَّقَ: ناشتہ کرنا۔ رَاق جمع رَاقات: تہہ،
پرت، طبقہ۔ رَوْق جمع اَرْوَاق: سینگ، غلام
گردش، بارہ دری۔ رُوْقَۃ: خوبصورت، حسین،
جمیل، خوبرو (عورت مرد، واحد و جمع کے لئے)۔
رِوَاق و رُوَاق جمع اَرْوِقَۃ: خیمہ، پردہ، خیمہ کا
لٹکتا ہوا پردہ، بازار پر چٹائیوں کی چھت، غلام گردش،
بارہ دری، کھلی گیلری، ستونوں کی قطار، کمرہ یا گیلری
جس کے ایک یا ایک سے زائد کھلے اطراف ہوں
خصوصاً جو گھر کا حصہ ہو اور ایک طرف باغ کی جانب
کھلی ہو، برآمدہ، بیرونی ڈیوڑھی، پیش دلیز، سراپردہ،
الازہر یونیورسٹی قاہرہ میں طلبہ کے لئے اقامتی اور کام
کے کمرے۔ ضرب رواقہ: اپنا خیمہ گاڑنا،
ٹھہرنا، قیام پذیر ہونا۔ رِوَاقی: زاہد، زاہدانہ،
رواقی جمع رواقیون: رواقی، زاہد، ایک قسم کا راہب،
برادر۔ الرواقیۃ: زہد، رواقیت۔ رَاوُوق: پانی
مقطر کرنے کا برتن یا آلہ۔ تَرْوِیق: تقطیر، تنقیہ،
پاکیزگی۔ تَرْوِیقۃ: ناشتہ۔ اِرَاقۃ: بہانا، گرانا۔
اراقۃُ الدماء: خونریزی، قتل و غارت۔ رَائِق:
صاف، پاک۔
○ مال الروك: عوامی ملکیت۔

رول: رَوَّلَ الخبزۃَ: روٹی کو گھی میں بھگونا۔ ـ الفرسُ:
گھوڑے کی رال بہنا۔ الرُوَال جمع رَوَاوِیل:
جانوروں کی رال۔ المُرَوِّل: بہت رال گرانے
والا۔
○ رَوَّل: رال ٹپکانا، بہانا، بہنے دینا۔ رُوَال: رال۔
○ رُوْل: کردار، کام۔

رام: رَامَ ـُ رَوْمًا و مَرَامًا الشیءَ: کا ارادہ کرنا۔
صفت: رَائِم جمع رُوَّم و رُوَّام۔ رَوَّمَ فلانًا و
بہ: کو خواہش دلانا، سے ارادہ کرانا۔ ـ رائۃُ: یکے
بعد دیگرے چیزوں کا ارادہ کرنا۔ المَرَام جمع
مَرَامات: مقصد، مطلب۔
۲۔ رَوَّمَ: ٹھہرنا۔
۳۔ تَرَوَّمَ بہ: سے ٹھٹھا کرنا۔
۴۔ الرام (ن): درخت۔ الرَامۃ: جوہڑ، بادیہ میں
ایک جگہ، شعر میں اس کا استعمال اکثر تثنیہ کے لفظ سے
ہوتا ہے۔ الرَوْم: کان کی لو۔ الرُوْم: کان کی
لو۔ (ك): گنے کی تلچھٹ کی تقطیر اور تخمیر کے ذریعے
بنائی جانے والی شراب۔ ـ والأَرْوَام واحد رُومیّ:
بحر ابیض متوسط کے شمال میں بسنے والے لوگوں کی
نسل۔ عیسائیوں کے ایک فرقہ کا نام۔ بحر الرُوم:
بحر ابیض متوسط۔ اسے البحر الابیض بھی کہا جاتا ہے۔
الرُوْمَۃ: سریش جس سے تیر کا پر جوڑا جاتا ہے۔
رُوْمَۃ و رُومِیَۃ: اٹلی کا ایک شہر۔ اس سے نسبت کے
لئے: رُوْمَانی۔ الرُوْمَنطیقیۃ او الرومانسیۃ:
رومانیت، تخیلیت۔
○ رَامَ ـُ رَوْمًا و مَرَامًا ہ: کو چاہنا، کی خواہش کرنا،
کی تمنا کرنا، حرص کرنا، آرزو کرنا۔ ـ ل ہ: کے لئے
کی خواہش کرنا۔ ـ ہ: کو ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا۔
علی ما یُرام: اتنا اچھا جس کی کوئی امکان بھر خواہش
کر سکے، بہت عمدہ حالت میں۔ رَامَ اللّٰہ: رام اللہ:
یروشلم (بیت المقدس، القدس) کے شمال میں مغربی
اردن کا ایک شہر۔ رَوْم: خواہش، حسرت، تمنا۔
مَرَام جمع مَرَامات: خواہش، حسرت، تمنا،
طلب، آرزو۔ الرُوْم: رومی، بازنطینی۔ جمع
اَرْوَام: یونانی آرتھوڈکس گرجا کے پیروکار۔ بحر
الروم: بحر ابیض متوسط۔ رُوْمِی جمع اَرْوَام:
رومی، بازنطینی، یونانی آرتھوڈکس (چرچ)۔ دِیك
رُوْمِی: ایک قسم کا مرغ، بیل۔ جُبْنَۃ رومی: پنیر
کی ایک قسم۔ رُوْما و رُوْمَۃ: روما۔ رُوْمِیَۃ: روما۔
الرُوْمَان: رومن، رومانی لوگ۔ رومانی: رومن،
رومانی۔ رُوْمانیا: رومانیا (ملک)۔
○ رُوْماتزم: وجع المفاصل، جوڑوں کا درد۔
○ رِوْنْد و رَاوَنْد: ریوند چینی (rhubarb)۔

ران: ا۔ رَانَ ـِ رَوْنًا الامرُ: سخت ہونا۔ ـ تِ اللیلۃُ:
رات کے ہول کا سخت ہونا۔ الرَوْن جمع رُوُوْن:
سختی۔ رُوْنَۃ الشیءِ: چیز کی سختی اور اس کا بڑا حصہ۔
کہا جاتا ہے: کشفَ اللّٰہُ عنك رُوْنَۃَ ھذا الامرِ:
اللہ تعالٰی تجھ سے اس معاملہ کی سختی دور کرے۔
الأَرْوَنَان: سخت دشوار۔ ـ والأَرْوَنَانِیّ مؤنث
اَرْوَنَانَۃ و اَرْوَنَانِیَّۃ: ہر چیز کی سختی و تیزی مثلاً سردی و
گرمی اور خوشی و غمی وغیرہ کی سختی و تیزی، شور و غل کی سختی۔
مَرُوْنٌ بہ: مغلوب۔
۲۔ الرَوَنْد و الرِوَنْد و الرَاوَنْد (ن): ریوند چینی،
باغوں میں اگنے والا پودا جس کے پتے چوڑے ہوتے
ہیں اور پکا کر پھل کی طرح کھائے جاتے ہیں۔ قبض
کشا اور مقوی معدہ ہوتے ہیں۔

راہ: رَاہَ ـُ رَوْھًا و رُوَاھًا الماءُ: پانی کا سطح زمین پر
لہریں مارنا۔

روی: ا۔ رَوَی ـِ رِوَایَۃً الحدیثَ: بات کو نقل کرنا،
بیان کرنا۔ صفت: رَاوٍ جمع رُوَاۃ و راوُون۔
رَوَّی تَرْوِیَۃً الشِعْرَ: کو شعر کی روایت پر آمادہ
کرنا۔ اَرْوَی اِرْوَاءً فلانًا الشِعْرَ: کو شعر کی
روایت پر آمادہ کرنا۔ تَرَوَّی تَرَوِّیًا الحدیثَ:
بات کی روایت کرنا، بات نقل کرنا۔ الرَاوِیَۃ: حدیث
یا شعر بیان کرنے والا۔ (تاء مبالغہ کی ہے)۔
۲۔ رَوَی ـِ رِوَایَۃً الحبلَ: رسی بٹنا۔ ـ الرحلَ:
کجاوہ کو اونٹ پر رسی سے باندھنا۔ اَرْوَی اِرْوَاءً
الرِوَاءَ علی البعیرِ: اونٹ پر لادے ہوئے سامان
کو رسی سے باندھنا۔ تَرَوَّی ت مفاصلُہُ: کے
جوڑوں کا معتدل اور سخت ہونا۔ اِرْتَوَی اِرْتِوَاءً
الحبلُ: رسی کا بٹنا۔ ـ ت مفاصلُہُ: کے جوڑوں
کا سخت اور معتدل ہونا۔ الرِوَاء جمع اَرْوِیَۃ و
المِرْوَی جمع مَرَاوٍ و مَرَاوَی: وہ رسی جس سے
جانور پر لدے ہوئے سامان کو باندھا جاتا ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۳۔ رَوَی ۔ رِوَایَةً القومَ: قوم کے لئے پانی لانا، طلب کرنا۔ رَوِیَ ۔ رِیًّا و رَیًّا و رِوًی من الماء: پانی سے سیراب ہونا صفت: رَیَّان مؤنث رَیَّا جمع رِوَاء۔ ــ الشجرُ: درخت کا سرسبز ہونا۔ رَوَّی تَرْوِیَةً: سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔ (یومُ التَرْوِیَة: ماہ ذی الحجہ کا آٹھواں دن جس میں حجاج پانی لے کر جاتے ہیں)۔ ــ النباتَ: پودے کو پانی دینا۔ أَرْوَی اِرْوَاءً القومَ: لوگوں کو پانی سے سیراب کرنا۔ تَرَوَّی تَرَوِّیًا: پانی سے سیراب ہونا۔ ــ القومُ: قوم کا سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔ اِرْتَوَی اِرْتِوَاءً من الماء: پانی سے سیراب ہونا۔ الرَاوِیَة جمع رَوَایَا: وہ جانور جس پر پانی لاد کر لایا جائے، پانی لانے کی مشک۔ الــرَوٌ: زرخیزی۔ الرِوَی: سیراب کرنے والا، بہت پانی۔ الرَوِیّ: پانی پلانے والا، ساقی، زور سے بارش برسانے والا بادل۔ ــ من الشرب: پوری سیرابی والا۔ کہا جاتا ہے: شربت شربًا رَوِیًّا: میں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ ماءٌ رَوِیّ: سیراب کرنے والا بہت پانی۔ کہا جاتا ہے: کاسٌ رَوِیَّة: سیراب کن پیالہ۔ الرَوِیَّة: الرَوِیّ کا مؤنث۔ الرُوَاء: خوش منظری (کہا جاتا ہے: رجُلٌ له رُوَاءٌ: خوش منظر مرد)، چہرہ کی آب وتاب۔ الــرَوَاء: سیراب کرنے والا بہت پانی، میٹھا پانی۔ الــرِیّ: سیرابی خوش حالی، نعمت کی فراخی وفراوانی۔ الرِیَّة: روی سے اسم النوع۔ عینٌ رَیَّة: بہت پانی والا چشمہ۔ کہا جاتا ہے: مــن ایــن رَیَّتُکــم: تم پانی کہاں سے لاتے ہو۔ الــرَیَّان مؤنث رَیَّا جمع رِوَاء: سیراب (کہا جاتا ہے: فلانٌ رَیَّانٌ مِّن العلم و هم رِوَاءٌ منه: فلاں شخص بہت علم والا ہے، وہ بہت علم والے ہیں)۔ سرسبز ٹہنی۔ وجهٌ رَیَّانٌ: پرگوشت چہرہ۔

۴۔ رَوَّی فی الامر: کسی امر میں سوچ بچار کرنا۔ تَرَوَّی تَرَوِّیًا: غور وفکر کرنا۔ الرَوِیّ: تندرست، سالم العقل اور صحیح البدن۔ الرَوِیَّة: کسی امر میں سوچ بچار، غور وفکر۔

۵۔ الــرَیَّا: عمدہ خوشبو۔ الــرِیَّة (ع ا): پھیپھڑا۔ رِیَّةُ البــحــر: ایک سمندری جانور۔ الــرَوِیّ: قافیہ کا حرف۔ الــرَوِیَّة: حاجت، قرض وغیرہ کا بقیہ۔ الأُرْوِیَّة والإِرْوِیَّة جمع اَرَاوِیّ و اَرَاوٍ و اَرْوَی (ح): پہاڑی بکری (مذکر ومؤنث)۔

○ رَوِیَ ۔ رَیًّا و رِیًّا: جی بھر کر پینا، پیاس بجھانا، سیراب ہونا۔ رَوَی ۔ علی/ل: کو پانی لا کر دینا۔ ــ ہ: کو پانی دینا۔ رَوَی ۔ رِوَایَةً ہ ل: کو کچھ بتانا، سے کچھ بیان کرنا۔ ــ ہ: کچھ بیان کرنا، کی اطلاع دینا، خبر دینا، کی رپورٹ کرنا، کی رپٹ لکھوانا، کا حال بیان کرنا۔ ــ ہ عن: کو کے حوالے سے منتقل کرنا۔ ــ عن: کا حوالہ دینا یا پیش کرنا، سے اقتباس پیش کرنا۔ رَوَّی ہ: کی پیاس بجھانا۔ ــ ہ: کو پانی دینا، کی آبپاشی کرنا، آبیاری کرنا۔ اَرْوَی ہ: کو پانی دینا، کی پیاس بجھانا۔ ــ ہ: پھولوں وغیرہ کو پانی دینا۔ ــ ہ: کو تر کرنا، بھگونا۔ تَرَوَّی ہ عن: کو سے حاصل کرنا، نکالنا۔ ــ فی: پر غور کرنا، پر غور وفکر کرنا۔ اِرْتَوَی: اپنی پیاس بجھانا، پینے کے لئے پانی ساتھ رکھنا، پینے کو پانی دیا جانا، پانی دیا جانا، آبپاشی کیا جانا، آبیاری کیا جانا، کسی سند سے معلومات حاصل کرنا۔ رِیّ: (پیاس) بجھانا۔ رِیّ و رَیّ: پانی دینا، آبپاشی۔، آبیاری، تر کرنا، بھگونا۔ رَیًّا: خوشبو۔ رَوِیّ: پیاس بجھانے والا۔ رَوِی: قافیہ کا حرف، قافیہ۔ ذو رَوِیٍّ واحــد: یکسانی کے باعث اکتا دینے والا (گیت)۔ رَوَاء: تازہ (پانی)۔ رُوَاء: دلکشی، جاذبیت، خوبصورتی، مرغوب شکل۔ رَوِیَّة: سوچ بچار، غور وفکر، تامل، غور۔ عــن رَوِیة: دیدہ و دانستہ، جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، قصداً، ارادۃً، ارادے سے۔ عَــنْ غیــرِ رویةٍ: تیاری کے بغیر، بیساختہ، اتفاقاً، یونہی۔ رِوَایَة جــمــع روَایَــات: کہانی، رپورٹ، سرگذشت، کیفیت، تفصیل، ناول، کھیل، ڈرامہ، فلم۔ رِوَایَةٌ مُحْزِنَةٌ: حزنیہ، المیہ، ٹریجڈی۔ روایة مســرحیة: سٹیج پلے۔ روایة سینمائیة: فلم۔ روایة مُضْحِکة: طربیہ، دلچسپ قصہ۔ روایة غِنَــائِیة: غنائیہ، اوپرا (opera)۔ روایة قِصَصِیَة یا قَصَصِیة: ناول۔ روایة تمثیلیة: ڈرامہ، کھیل۔ روایة نــاطــقة: گویا فلم۔ روایة هَزْلِیَة: طربیہ، مزاحیہ۔ روَائی: ناول نگار، ڈرامہ نویس، تمثیل نگار، مصنف، قلمکار۔ رَیَّان مونث رَیَّا جمع رِوَاء: پانی سے سیراب، اچھی طرح پانی دیا ہوا، خوب آبپاشی کیا ہوا، خوب آبیاری کیا ہوا، بافراط پیدا ہونے والا، گھنا اور طراوت والا، ہرا بھرا، سرسبز، گول مٹول، بھرا بھرا (چہرہ)، رس بھرا، رسیلا، تازہ، خوبصورت، حسین۔ تَــرْوِیة: سوچ بچار، غور وفکر، غور۔ اِرْوَائی: آبپاشی کا، آب پاشی کیا ہوا۔ تَرَوٍّ: سوچ بچار، غور وفکر، غور۔ راوٍ جــمــع رَاوِیُون و رُوَاة و رَاوِیَة جــمــع رَوَایَا: قدیم عربی شاعری کا بالخصوص [illegible] بیان کرنے والا۔ مَــرْوِیَــات: کہانیاں، قصے، روایات۔

راب: ۱۔ رَابَ ۔ رَیْبًــا ہُ: کو شک یا تہمت میں ڈالنا، بد اعتمادی میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا۔ اَرَابَ اِرَابَةً ہُ: کو شک میں ڈالنا، پر تہمت لگانا، پریشان کرنا۔ ــ الرجــلُ او الامــرُ: قابل شک ہونا۔ کہا جاتا ہے: اَرَابَهُ منه امرٌ: اس نے اس کے ساتھ بدگمانی کی اور تہمت کا یقین نہیں کیا۔ اِرْتَــابَ اِرْتِیَــابًــا مــن الشیء: کسی چیز میں شک کرنا۔ ــ بفلان: کسی پر تہمت لگانا۔ اِسْتَرَابَ اِسْتَرَابَةً: شک میں پڑنا، کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔ الــرَیْــب: شک، بے اعتقادی، تہمت۔ الرِیْبَة جمع رِیَب: شک، تہمت، بے چینی، بے کلی۔

۲۔ رَابَ ۔ رَیْبًــا ہُ: کسی میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھنا۔ کہا جاتا ہے: فــلانٌ لایــریبُه احدٌ بشیء: فلاں شخص پر کوئی اعتراض نہیں کرتا اور نہ اسے پریشان کرتا ہے۔ اَرَابَ اِرَابَةً ہُ: کو پریشان کرنا، بے قرار کرنا۔ تَــرَیَّبَ تَرَیُّبًا منه: سے خوف زدہ ہونا، ڈرنا۔ ــــ بهِ: کسی سے کوئی شک میں ڈالنے والی بات دیکھنا۔ ارْتَــابَ اِرْتِیَــابــاً بــفلان: کسی میں کوئی شک میں ڈالنے والی بات دیکھنا۔ اِسْتَــرابَ اِسْتِرَابَةً به: کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔ الرَیْب: حاجت، ضرورت۔ رَیْــبُ الــمــنــون: نصیب کا ناقابل پیشیں گوئی پلٹا، ڈراؤنا انجام، بدنصیبی، بدبختی۔ الــرِیْبَة جــمــع رِیَــب: بے کلی، بے چینی۔ امرٌ رَیَابٌ: ڈرانے والا معاملہ۔

○ رَابَ ۔ رَیْبًــا ہ: کو کے بارے میں پریشان کرنا، بے چین کرنا، بے آرام کرنا، ڈرانا، گھبرا دینا، دہشت زدہ کرنا، شک وشبہ، بدگمانی یا اندیشہ میں ڈالنا۔ ــــ ہ ان: کو کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کا باعث ہونا یا کچھ کرنے سے پہلے ہچکچاہٹ میں ڈالنا۔ ــــ ہ: کو بے چین کرنا، پر شک وشبہ ڈالنا، کو شک وشبہ کی روشنی میں دیکھنا۔ ــ ہ: میں شک وشبہ کرنا۔ اَرَابَ ہ: کو پریشان کرنا، بے چین کرنا، بے آرام کرنا، ڈراؤنا، گھبرا دینا، چونکا دینا، شک وشبہ، بدگمانی یا اندیشہ میں ڈالنا۔ تَــرَیَّبَ فی/ب: کے بارے میں شکوک یا اندیشے رکھنا، شبہ کرنا۔ اِرْتَابَ: مشتبہ ہونا، مشکوک ہونا، دھوکے یا فریب کا شبہ کرنا۔ ــ فی/ب: پر شبہ کرنا، شک کرنا، بے اعتباری کرنا، کو شبہ کی نظر سے دیکھنا، کو مشکوک سمجھنا، کو ماننے میں پس وپیش کرنا، کا امتحان کرنا، پر شک وشبہ کرنا، کی صحت میں شک کرنا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

معترض ہونا، کے بارے میں شکوک وشبہات یا اندیشے رکھنا۔ بين: کے مابین پس وپیش کرنا۔اِسْتَرَابَ في: کے بارے میں شک کرنا ــــ: مشتبہ ہونا، مشکوک ہونا، اندیشے اور وسوسے رکھنا، شکوک وشبہات کو دل میں جگہ دینا یا ذہن میں رکھنا۔رَيْب: شک، شک وشبہ، بدگمانی، اندیشہ، تذبذب، غیر یقینی حالت۔ لاريب: بلاشبہ، بیشک، یقیناً، غالباً۔لاريْبَ فيه: اس کے متعلق کوئی شک وشبہ نہیں۔رِيْبَة جمع رِيَب: شک وشبہ، شبہ، بدگمانی، بے اعتمادی۔اِرْتِياب: شک وشبہ، شبہ، بدگمانی، بے اعتمادی، عدم اعتماد۔مُرِيْب: شک وشبہ ابھارنے والا مشتبہ، شکی۔مُرْتاب: شک وشبہ کرنے والا، مشکوک، مشتبہ، شکی، شک وشبہ کی نظر سے دیکھنے والا، متشکک۔مرتاب (فيه يا به): جس میں شک وشبہ ہو، مشکوک، مشتبہ، مشکوک چال چلن کا، شکی۔مرتابٌ في أمرِهِ: مشتبہ، مشکوک چال چلن کا، جس پر غلط کاری کا شبہ ہو۔مُسْتَرِيب في: کے بارے میں مشکوک، مشتبہ ــــ: مشتبہ، شکی۔ مُسْتراب (فيه): مشتبہ، شکی۔

راث: اراثَ - رَيْثًا: دیر کرنا، تاخیر کرنا۔رَيَّثَ: تھکنا۔کہا جاتا ہے: رَيَّثَ عما كان عليه: وہ اپنی پہلی حالت تک پہنچنے میں قاصر رہا۔أراثَ إراثَةً هُ: کو دیر کرانا۔تَرَيَّثَ: دیر کرنا، تاخیر کرنا۔اِسْتَرَاثَ اِسْتِراثَةً هُ: کو دیر کرنے والا پانا یا سمجھنا۔الرَيْث: زمانہ کی مہلت کا عرصہ یا مقدار۔کہا جاتا ہے: وقف رَيْثَمَا صَلَّينا: وہ ہمارے نماز پڑھنے تک ٹھہرا رہا۔ ماقعدتُ عنده اِلاّ رَيْثَ اَعقِدُ شِسْعِي: میں اس کے پاس صرف اتنا عرصہ بیٹھا کہ اپنی جوتی کا تسمہ باندھ لوں۔اس سے ضرب المثل ہے: رُبَّ عجلةٍ أعْقَبَتْ رَيْثًا: بسا اوقات جلدی کرنا تاخیر کا باعث ہوتا ہے۔الرَيِّث: دیر کرنے والا۔رجُلٌ مُرَيَّثُ العينين: کمزور نظر والا مرد۔

۲۔رَيَّثَ الشيءَ: کو نرم کرنا۔

◌ راثَ - رَيْثًا: ہچکچانا، پس وپیش کرنا، تاخیر کرنا، دیر لگانا، دیر میں آنا یا پہنچنا۔تَرَيَّثَ: ہچکچانا، پس وپیش کرنا، تاخیر کرنا، دیر لگانا، دیر کرنا، سست ہونا، کاہل ہونا ــــ في/ب: پر طویل اور مکمل غور وخوض کرنا۔ ــ رکنا ــ في: کسی جگہ ٹھہرنا، کسی جگہ کے چکر لگاتے رہنا ــــ: صبر کرنا، موقع کی تاک میں ہونا، موقع کا انتظار کرنا۔ دفع الوقتی کرنا، انتظار کرنا۔ رَيْثَمَا: جب تک، کے دوران میں، جب، جب تک کہ، تک۔

راخ: رَاخَ - رَيْخًا و رَيَخانًا و رُيُوخًا: ذلیل ہونا، ڈھیلا ہونا۔رَيَّخَ هُ: کوست کرنا، کمزور کرنا۔ المَرِيخ جمع اَمْرِخَة: سینگ کے جوف میں پائی جانے والی چھوٹی سی نازک ہڈی۔

◌ رَيْخ: جرمنی کی جمہوری حکومت، جمہوریہ جرمنی Reich: جرمنی کی (سابقہ) ریاست یا مملکت۔

راس: رَاسَ - رَيْسًا و رَيَسانًا: متکبرانہ چال چلنا۔ ــ الشيءَ: کی پوری حفاظت کرنا ــ القومَ: پر غالب آنا، برتری حاصل کرنا۔الرَيِّس: قوم کا سردار جیسے سربراہ۔

◌ رَيِّس: بمعنی رئیس۔میٹ (mate)، کپتان سے نیچے بحری جہاز کا ایک افسر۔رَيِّس ممتاز: درجہ سوم کا چھوٹا افسر (بحریہ کا ایک منصب)۔رِيَاسَة بمعنی رِئاسة: دیکھو رأس۔رِيَاسِي: صدارتی۔

راش: اراشَ - رَيْشًا: مال وسامان جمع کرنا، مال دار ہو جانا، امیر ہو جانا۔رجُلٌ رَاشٌ: مالدار آدمی۔ الرَيْش: سامان واسباب۔الرِيش: مال، سرسبزی۔الرِيَاش: عمدہ سامان واسباب، مال، سرسبزی۔رجلٌ أرْيَش: مال ولباس والا۔

۲۔رَاشَ - رَيْشًا السهمَ: تیر میں پر لگانا ــ هُ: کو کھلانا، پہنانا، روٹی کپڑا دینا، کی مدد کرنا، کو مالدار بنانا ــ هُ مالاً: کو مال دینا ــ من حالِهِ: کے حال کی اصلاح کرنا۔کہا جاتا ہے: فلانٌ لا يريش و لا يَبْري: فلاں شخص نہ نقصان دہ ہے نہ نفع رساں۔ لاتَرِشْ عَلَيّ: میرے کلام میں دخل نہ دو۔رَيَّشَ السهمَ: تیر میں پر لگانا ــ السقمُ فلانًا: بیماری کا کسی کو کمزور کر دینا۔اَرَاشَ السهمَ: تیر میں پر لگانا۔تَرَيَّشَ: آسودہ حال ہونا۔اِرْتَاشَ: آسودہ حال ہونا ــ السهمَ: تیر میں پر لگانا۔ الرَاش جمع اَرْيَاش: پرندے کا پر۔طيرٌ راشٌ مونث رَاشَةٌ: پر نکلا ہوا پرندہ۔رمحٌ راشٌ: کمزور تیر۔ جملٌ راشٌ: کمزور اونٹ۔كلأٌ رِيش و رَيِّش: بہت پتوں والی گھاس۔الرِيش واحد رِيشَة جمع رِيَاش و اَرْيَاش: پرندے کے پر، فاخرانہ لباس، معاش۔رِيشَة (مو): مضراب پر کا قلم، چونچ کی شکل کی دھات جو لکھنے کے کام میں آتی ہے، نب۔الرَيِّش: کان یا چہرے پر کے گھنے بال۔ الرائِش: پر لگا ہوا تیر، رشوت کا دلال۔المريَاش من النوق: کانوں اور چہرے پر گھنے بالوں والی اونٹنی۔الرِيَاش: لباس فاخرہ، معاش۔الاَرْيَش مونث رَيْشَاء جمع رِيش: کانوں یا چہرے پر بہت بال رکھنے والا۔الرَيَّاش: تیروں پر پر لگانے والا۔المَرِيش من السهام: پر لگایا ہوا تیر۔المُرَيَّش: بہت بالوں والا، کم گوشت والا، کمزور پشت والا ــ من السهام: پر لگایا ہوا تیر۔ ــ من الرجال: شاہی اعزاز کا پر پگڑی میں رکھنے والا۔البُرْدُ المُرَيَّش: وہ چادر جس پر پروں کی تصویریں بنی ہوئی ہوں۔

◌ رَاشَ - رَيْشًا هُ: پر پر لگانا، کو پروں سے آراستہ کرنا ــ: اپنا گھر بھرنا، دولتمند ہو جانا۔رَيَّشَ هُ: کو پروں سے آراستہ کرنا، پر پر لگانا یا جمانا، پرندہ کا پر اُگانا۔تَرَيَّشَ: (پرندہ کا) پر اُگانا، دولتمند ہو جانا۔ رِيش: (اسم جنس واحد رِيشَة) جمع رِيَاش و أرياش: پرندوں کے پر، پر، پنکھ، پرندے کے بال و پر، ملبوسات، کپڑے، خارجی شکل، (برش وغیرہ کے) کڑے بال۔رِيشَة جمع رِيشات: پر، پر جس کا قلم بناتے ہیں، بڑا پر، پر کا قلم، لکھنے کا قلم (نیز رِيشَة الكتابة)، (مصور کا) برش، مضراب، نشتر، (بانسری وغیرہ کا) نرکل، ایک قسم کی لے، دہری بانسری۔وزن الرِيشَة: ڈیڑھ من سے کم کا مکے باز۔رِيشي: پر کا، پروں کا، پر لگا ہوا، ہوا کا سا تیز، پروں سے سجا ہوا، پروالا، پردار، پر کی شکل کا۔رِيَاش: گھریلو سامان، فرنیچر، ساز وسامان۔

ريط: الرَيْطَة جمع رَيْط و رِيَاط: ایک پاٹ کی چادر ہر چادر نما کپڑا، کفن۔الرائِطة: ایک پاٹ کی چادر، ہر چادر نما کپڑا، کفن۔

راع: رَاعَ - رَيْعًا و رُيُوعًا و رِيَاعًا و رَيَعانًا الشيءُ: نشو ونما پانا، زیادہ ہونا، بڑھنا ــ الزرعُ: کھیتی کا بڑھنا۔رَيَّعَ الطعامُ: بڑھنا، زیادہ ہونا۔ ــ الطعامَ: کھانے کو بڑھانا، زیادہ کرنا۔اَرَاعَ اِرَاعَةً الزرعُ: فصل کا بڑھنا ــ اللّٰهُ الزرعَ: اللہ تعالیٰ کا فصل کو بڑھانا ــ القومُ: قوم کی فصل کا نشو ونما پانا اور بڑھنا ــ ت الإبلُ: اونٹوں کا کثیر الاولاد ہونا۔تَرَيَّعَتْ يداهُ بالجود: بخشش کا ہاتھ کھولنا۔اِسْتَرَاعَ اِسْتِرَاعَةً تْ يداهُ بالجود: بخشش کا ہاتھ کھولنا، سخاوت کی داد دینا۔الرَيْع: ہر چیز کی زیادتی۔(کہا جاتا ہے: ليس لهُ رَيْع: اس کے لئے پیداوار نہیں، غلہ نہیں)۔ ــ من كل شيء: ہر چیز کا اول اور بہتر حصہ ــ من الضحى: چاشت کے وقت کی روشنی ــ من الدِرْع: زرہ کے دامن اور آستین کی زیادتی۔الرَيْعان من كل شيءٍ: ہر چیز کا اول اور عمدہ حصہ۔جیسے آغاز شباب۔ناقة رَيْعانة

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

و مِرْیَاع: بہت دودھ دینے والی اونٹنی اور جلد دودھ دینے والی۔ مطرٌ مُرِیْعٌ: سرسبزی اور خوشحالی لانے والی بارش۔ ارضٌ مَرِیعَۃ: سرسبزی والی زمین۔

۲- رَاعَ – رَیْعًا السرابُ: سراب کا حرکت کرنا۔ ـــ منہ: سے ڈرنا۔ ـــ عنہ و الیہ: کی طرف لوٹنا، واپس آنا۔ کہا جاتا ہے: هربت الابلُ فصاح لها الراعی فراعت الیہ: اونٹ بھاگ پڑے، چرواہے نے انہیں پکارا تو اس کے پاس واپس آ گئے۔ فلانٌ لایَرِیعُ لکلامِكَ: فلاں شخص تمہاری بات نہیں مانتا۔ تَرَیَّعَ: مضطرب ہونا۔ ـــ السرابُ: سراب کا کبھی ظاہر ہونا اور کبھی ناپید ہونا۔ الرَیْع (مص): سراب کی حرکت، خوف۔ رَیْعَانُ السراب: متحرک سیراب۔

۳- رَیَّعَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ تَرَیَّعَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا۔ الرِیْعَۃ: اکٹھی جماعت۔

۴- تَرَیَّعَ: ٹھہرنا، حیران ہونا۔ اِسْتَرَاعَ استراعۃً: حیران ہونا۔

۵- تَرَیَّعَ الماءُ: پانی کا جاری ہونا۔ الرِیْع جمع رِیَاع و رُیُوع و اَرْیَاع: وادی کی بلندی سے پانی بہنے کی جگہ۔

۶- الرِیْع جمع رِیَاع و رُیُوع و اَرْیَاع: بلند ٹیلہ، اونچی جگہ، کشادہ پہاڑی راستہ، گرجا، کبوتروں کا برج۔ الرِیْعَۃ: بلند زمین۔

○ رَاعَ – رَیْعًا و رُیُوعًا و رِیَاعًا و رَیَعَانًا: زیادہ ہونا، بڑھنا، پھلنا پھولنا، سرسبز ہونا، پنپنا، فروغ پانا۔ رَیَّعَ ہ: کو زیادہ کرنا، بڑھانا۔ رَیْع جمع رُیُوع: پیداوار، فصل، نفع، منافع، آمدنی، محاصل، بکری، (زمینداری سے) آمدنی، سود، حق ملکیت کا معاوضہ: اول نمبر، سب سے اچھا، بہترین، انتہائی پسندیدہ حصہ۔ رَیْعُ الشباب: عنفوان شباب۔ رَیْعَان: اول نمبر، سب سے اچھا، بہترین، انتہائی پسندیدہ حصہ۔ فی ریعان الشباب: عنفوانِ شباب میں۔ فی رَیْعان النہار: دن دیہاڑے۔ ارضٌ مَرِیْعَۃٌ: بارآور، زرخیز یا پیداواری زمین۔ تَارِیع: غیر منقولہ جائداد کے متعلق زمین کی پیمائش۔

۷- مِسَاحَۃُ التاریع: مساحت۔ رَائِعۃ: فی رَائِعۃِ النہار: دن دیہاڑے۔

راف: ۱- رَافَ – رَیْفًا: سرسبز زمین میں آنا۔ ـــ تِ الماشیۃُ: مویشی کا سبزہ چرنا۔ اَرَافَ اِرَافَۃً المکانُ: کسی جگہ کا سرسبز ہونا۔ اَرْیَفَ اِرْیَافًا: سرسبز زمین میں آنا۔ ـــ المکانُ: کسی جگہ کا سرسبز ہونا۔ تَرَیَّفَ: سرسبز زمین میں آنا، الرِیْف جمع اَرْیَاف و رُیُوف (ز): کھیتوں والی اور سرسبز زمین۔ اسی سے ہے مصر کی مشہور کھیتوں والی سرسبز زمین (یعنی ریفِ مصر) پانی کے قریب کی زمین، کھانے پینے کی فراخی و فراوانی۔ مکانٌ رَیِّف مؤنث رَیِّفَۃ: زرخیز، بار آور، سرسبز جگہ۔

۲- رَایَفَ مُرَایَفَۃً للظِنَّۃ: تہمت کے قریب ہونا۔

۳- الرَّاف: شراب۔

○ رِیْف جمع اَرْیَاف: زرخیز، کاشت شدہ زمین سرسبز اور اچھی فصل دینے والی زمین، دیہات، مفصلات، دیہاتی علاقہ، دیہات کا علاقہ۔ الرِیف یا رِیفُ مِصر: پست تر مصر۔ ساحل الریف: شمال مشرقی مراکش کا ساحلی اور پہاڑی علاقہ۔ رِیفِی: دیہاتی، گنوار، اجڈ، دیہاتی علاقہ کا کسان، کاشتکار، تنگدلانہ، باہم مربوط، گنوار، گھامڑ، کندہ، ناتراش، مراکش کے ریف کا باشندہ۔

راق: ۱- رَاقَ – رَیْقًا الماءُ علی وجہ الارض: پانی کا سطح زمین پر بہہ پڑنا۔ ـــ السرابُ: سراب کا زمین پر چمکنا، حرکت کرنا۔ ـــ الشیءُ: چمکنا۔ رَیَّقَ ہُ الشراب: کو صاف شراب پلانا۔ اَرَاقَ اراقۃً الماءَ: پانی گرانا۔ تَرَیَّقَ السرابُ: سراب کا چمکنا، حرکت کرنا۔ الرَیْق (مص): پانی، باطل۔ الرائِق (فا): خالص، صاف۔

۲- رَاقَ – رَیْقًا و رُیُوقًا بنفسہ: جان دینا۔

۳- الرَیْق من کل شیء: ہر چیز کا اول اور بہتر یا عمدہ حصہ۔ خُبْزٌ رَیْقٌ: بغیر سالن کے روکھی روٹی۔ الرِیْق جمع اَرْیَاق و رِیَاق: تھوک (کہا جاتا ہے: انی علی الریق: میں نے ابھی تک کوئی چیز نہ کھائی ہے نہ پی ہے یعنی نہار منہ ہوں۔ شربتُ علی الرِیق و علی ریقِ النفس او رِیْقَۃِ النفس: میں نے نہار منہ پیا یعنی کچھ کھانے سے پہلے پیا) قوت، بقیہ جان۔ الرِیْقَۃ: تھوک۔ الرَّائِق: نہار منہ والا، تہی دست۔ الماءُ الرائِقُ: نہار منہ پیا جانے والا پانی۔ خبزٌ رائِق: روکھی روٹی۔ الرَیِّق: نہار منہ والا۔ ـــ والرَیُّوق من کل شیء: ہر چیز کا اول اور عمدہ حصہ۔ التَرْوِیْقَۃ: صبح کو کھائی جانے والی چیز (عام لوگوں کی زبان میں)۔

○ رَاقَ – رَیْقًا: چمکنا، روشن ہونا، دمکنا، تمتمانا، جلنا، بہنا، گرنا۔ اَرَاقَ: بہانا، گرانا۔ رِیق و رِیْقَۃ جمع اَرْیَاق: [illegible] علی الریق سے قبل، نہار منہ، خالی پیٹ۔ بَلَعَ رِیقَہُ و اِبْتَلَعَ رِیقَہُ: اپنا تھوک نگلنا، دم سادھ لینا، تھوڑی دیر کے لئے آرام کرنا، تھوڑا سا وقفہ کرنا، غصہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ بَلَّعَہُ رِیقَہُ: کو وقفہ کرنے دینا، کو دم سادھ لینے دینا۔ اَجْرَی الریقَ: تھوک بہانا، منہ میں پانی آ جانا، بھوک تیز کرنا۔ لایَجِفُّ لہ ریقٌ: وہ بولتے تھکتا نہیں، وہ لگاتار بولتا ہے۔ رَیِّق: فی رَیِّقِ الشباب: جوانی کے پورے جوبن میں۔

رال: رَالَ – رَیْلاً الصبیُّ: بچے کے منہ سے رال ٹپکنا۔ الرِیَال: رال، چاندی کا بڑا سکہ۔ (ہسپانی لفظ)۔

○ رَالَ – رَیْلاً و رَیَّلَ: رال بہانا، رال بہنے دینا، رال ٹپکانا۔ مَرْیَلَۃ: پیش بند۔ مَرْیُول: شلوکہ، بب (bib)۔

رام: ۱- رَامَ – رَیْمًا حملُ البعیر: اونٹ کے بوجھ کا جھکنا۔ ـــ عنہ: سے دور ہونا۔ ـــ المکانَ و منہ: کسی جگہ سے جدا ہونا۔ کہا جاتا ہے: مارام یفعل کذا: وہ ایسا کرتا رہا۔ اس کا عمل "کان" جیسا ہوتا ہے۔ ـــ رَیْمًا و رَیَمانًا الجرحُ: زخم کا بھرنا، مندمل ہونا۔

۲- رَامَ – رَیْمًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا، رہنا۔ رِیْمَ بہ: چھوڑ دیا جانا۔ رَیَّمَ تَرْیِیمًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـــ تِ السحابۃُ: بادل کا چھایا رہنا۔

۳- رَیَّمَ تَرْیِیمًا علی کذا: میں بڑھنا۔ الرَیْم: فضل و زیادتی۔ آپ کہتے ہیں: فی ھذا العِدْلِ ریمٌ علی الآخر: یہ بورا دوسری طرف کے بورے سے بھاری ہے۔

۴- الرَیْم: پہاڑی، قبر، قبر کا درمیان، تاریکی چھانے تک دن کا آخری حصہ، وقت کا لمبا عرصہ، لمبی گھڑی، سیڑھی کا درجہ۔ ـــ والرِیم (ح): خالص سفید ہرنی۔

○ رَامَ – رَیْمًا: دور ہونا، حرکت میں آنا، ہٹنا، سرکنا، ہلنا۔ ـــ ہ: کسی جگہ کو چھوڑ دینا، چھوڑ جانا۔ مارامَ مکانَہُ: اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، نہ حرکت کرنا۔ رَیَّمَ بالمکان: کسی جگہ ٹھہرنا، رہنا۔ ـــ علی: پر دھونس جمانا۔ رِیم: جھاگ، کف۔ تَرْیِیم: دھونس جمانا، رعب جمانا، تحکمانہ انداز اختیار کرنا، دھوکہ، ٹھگی۔ رِیم بمعنی رئم: سفید بارہ سنگھا۔

ران: ۱- رَانَ – رَیْنًا و رُیُونًا الشیءُ فلانًا و علیہ و بہ: پر غالب آنا۔ آپ کہتے ہیں: رَانَ ھواہ علی قلبہ: اس کی خواہش نے اس کے دل پر غلبہ پالیا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ـ ثَ نفسُهُ: جی کا بگڑنا، متلانا۔ ـ الموتُ علیه وبه: کوموت آجانا۔ رِیْن به: مرنا، ایسی مشکل میں پڑنا جس سے نکل نہ سکے، غم میں پڑنا۔ اَرَانَ اِرَانَةً القومُ: قوم کا ہلاک شدہ مویشیوں والا ہونا صفت: مُرِیْنُون۔ الرَّیْن: میل کچیل، زنگار۔ الرَّیْنَة: شراب۔ رجُلٌ مَرِیْنٌ علیه: گھرا ہوا۔

۲۔ الران: موزہ نما جوتہ۔

ن رَانَ - رَیْنًا ہ / علی وبه: پر قابض ہونا، قبضہ کرنا۔ ـ ہ/ب/علی: جذبہ کا کسی پر گرفت کرلینا، کو مغلوب کرلینا۔ ـ علی: پر آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، پر چڑھ دوڑنا۔ ـ علی: (خاموش وغیرہ کا ایک کمرے میں) طاری ہونا، عام ہونا۔

راه: رَاهَ - رَیْهًا الرجلُ: آنا جانا، آمدورفت کرنا۔ رَیَّهَ تَرْیِیْهًا الرجلَ: کو آمدورفت کرانا۔ تَرَیَّهَ السرابُ: سراب کا کبھی چمکنا کبھی بجھنا۔

ریی: رَیَّی الرایةَ: جھنڈا بنانا۔ اَرْیَی اِرْیَاءً الرایةَ: جھنڈا گاڑنا۔ الرَّایَة جمع رَایَات و رایٌ: نصب شدہ نشان، لشکر کا جھنڈا، علم، لوا سے بڑا ہوتا ہے اور اسکی کنیت اُمّ الحرب ہے۔ الرَّیّ: ملک فارس میں ایک شہر ہے۔ نسبت کے لئے الرازی آتا ہے۔ عینٌ رَیَّةٌ: بہت پانی والا چشمہ، (دیکھو روی)۔ الرِیّ: خوش منظر، خوش شکل۔ کہا جاتا ہے: لِفُلانٍ رِیٌّ حسنٌ: فلاں شخص خوش شکل ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ز ۔ تلفظ زاء: حروف تہجی کا گیارہواں حرف اس کا تلفظ زبان کی نوک سے کیا جاتا ہے۔ حروف ابجد میں اس کا عدد سات (۷) ہے۔

زأب :ا۔ زَأَبَ ۔زَأباً :بے تحاشا پینا۔ الدھرُ به : زمانہ کا پھرنا۔ الماشیةَ :مویشیوں کو ہانکنا۔ بحمله :کا بوجھ کھینچنا۔ زأب وازدأبَ ازدِئاباً القربةَ :پانی کی مشک کو دوڑ کر لے آنا۔

○ زاؤوق:پارہ، سیماب۔

۲۔ زَأبَرَ الثوبُ :کپڑے کا روئیں دار ہونا۔ الثوبَ : کپڑے کا رواں نکالنا۔ الزِئبَرو الزُؤبُر والزَوبَر: کپڑے کا رُواں کہا جاتا ہے۔ ذهبتِ الایام بنضارته ونفضت زِئبَرَه :زمانہ اس کی رونق لے گیا اور اس کے روئیں کو جھاڑ دیا یعنی اس کا زمانہ پرانا ہوگیا۔

۳۔ زَأبقَ الشیءَ : (پر) پارہ کی قلعی کرنا۔ الزِئبق والزِئبِق(ك) :پارہ، عوام اسے "ذَیبَق": کہتے ہیں۔ اس کی علامت Hg ہے۔ (فارسی لفظ ہے)۔

زأج : زَأجَ ۔زَأجاً بینهم : (میں) پھوٹ ڈالنا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا۔ ایک کو دوسرے پر مسلط کرنا۔

○ زاج:گندھک کا تیزاب۔

زأد: زَأدَه ۔ زَأدًا و زَأَدًا و زُؤدًا و زُؤُدًا ہ: (کو) خوف زدہ کرنا۔ الزُؤد و الزُؤُد:گھبراہٹ۔ لیلةٌ مَزؤُودَة:خوف اور گھبراہٹ کی رات۔

زأر: زَأَرَ ۔۔ زَئِرَ ۔زَئیراً وزَأرًا وتزْآرًا و أزارَ ازآراً و تزَأّرَ الأسدُ :شیر کا دھاڑنا۔ زَئِر و زائِر و مُزئِر : دھاڑنے والا، ۔و۔ الفحلُ :سانڈ کا آواز کو گڑگڑانا۔ الزَأرَة : ایک بار کی دھاڑ، جنگل، جھاڑی، باغ۔ من الابل والغنم: اونٹوں اور بکریوں کا گنجان ریوڑ۔

○ زَئیر: گرج، دھاڑ، ڈکار۔

زأز :ا۔ زَأزَأَ : سر اور دم اٹھا کر جلدی جلدی چلنا۔ و۔ الشیءَ: (کو) حرکت دینا۔ تَزَأزَأَ: پہلو ہلاتے ہوئے چلنا۔و۔ الشیءُ: کسی چیز کا حرکت کرنا اور ادھر ادھر ہلنا۔

۲۔ زَأزَأَهُ: کو خوف زدہ کرنا۔ تَزَأزَأَ: ڈر کر چھپ جانا۔ و۔ منه : (سے) ڈر کر عاجزی کرنا۔

○ زَأَطَ ۔۔ زِئاطاً :چلانا، شور مچانا، گلا پھاڑ پھاڑ کر یا چیخ چیخ کر کہنا۔

○ زاغ جمع زِغان:کوا

زأف :ا۔ زَأَفَ ۔زَأفَاہ : (سے) جلدی کرانا۔ اِزدَأَفَ اِزْآفاً علیه :(زخمی کو ختم کر دینا۔ (کو ختم کرنا اور تباہ کرنا۔ الزُؤاف :جلدی کرانا۔ موتٌ زُؤاف:جلد موت۔

۲۔ ازْأَفَه بطنُهُ :کو پیٹ کا بوجھ ڈال کر حرکت نہ کرنے دینا۔

زأك: زَأَكَ ۔زَأكاناً : مٹک کر چلنا۔ تَزَاءَكَ تزاؤُكاً منه :سے شرمانا، حیا کرنا۔

زأم:ا۔ زَأمَ ۔زَأماً و زُؤاماً :جلدی سے مر جانا۔ الموتُ الزُؤام :جلد موت، ناخوشگوار موت۔

۲۔ زَأمَ ۔زَأماً و زُؤاماً :ڈٹ کر کھانا۔ الزَأمَة :بہت کھانا پینا۔ حاجت۔ من الطعام :کھانے کا کافی ذخیرہ۔

۳۔ زأم ۔۔زَأماً و زُؤاماً لی کلمةً :ایسی بات منہ سے نکالنا جس کے حق و باطل کا پتہ نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ مازأم بحرف یعنی وہ کچھ نہیں بولا۔ الزَأمَة :کلمہ کہا جاتا ہے: ما یعصیه زَأمَةً یعنی وہ اسکی کسی بات میں بھی مخالفت نہیں کرتا

۴۔ زَأمَ ۔زَأماً و زُؤاماً ہ :کو ڈرانا، خوف میں مبتلا کرنا۔ و ۔ہُ البردُ :سردی کا کسی کو کپکپا دینا۔ زَئِمَ ۔زَأمًا : سخت گھبرا جانا۔و۔ بفلان :(کو) چیخ کر بلانا، آواز دینا۔ زُئِم زأمًا و اِزدَأَمَ: سخت گھبرانا۔ الزَئِم : بہت خوف زدہ۔ الزَأمَة:ہوا، کرخت آواز۔

۵۔ ازْأَمَہُ علی الامر : (کو) پر مجبور کرنا۔و۔ الجرحَ: زخم کا علاج کر کے ٹھیک کرنا۔

۶۔ الزِئم :آنکھ، حسب کہا جاتا ہے۔ طعنوا فی زِئمِهِ: انہوں نے اس کے حسب میں عیب نکالے۔

○ موتٌ زُؤامٌ:اچانک، ناگہانی یا سخت موت۔

زأن: الزُؤان : واحد زُؤانة(ن): گیہوں سے مشابہ ایک دانہ جو گیہوں میں پیدا ہوتا ہے اور خواب آور ہے۔

○ زانة جمع زانات: نیزہ، برچھی، بلم، لاٹھی۔ الوثب (القفز) بالزانة :لاٹھی وغیرہ پہ ہاتھ رکھ کر کودنا، جست لگانا۔

زای :زَأَی ۔زَأیًا : تکبر کرنا۔ ازْأَی فلاناً بطنُهُ :زیادہ شکم پری کا کسی کو حرکت نہ کرنے دینا۔

زبّ:ا۔ زَبَّ ۔زَبَباً :کے چہرے اور کانوں کے بالوں کا گاڑھا ہونا۔و۔ تِ الشمسُ :سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ زَبَّبَ و أَزَبَّتِ الشَّمسُ :سورج کا غروب ہونے کے لئے جھک جانا۔ الزَبَب(مص) بالوں کی کثرت اور طوالت۔ الأزَبّ م زَبّاء: کانوں اور چہرے پر زیاد بالوں والا مثل ہے: کلُّ ازَبَّ نفورٌ یعنی وہ اونٹ جس کے چہرے پر بہت بال ہوتے ہیں بدکنے والا ہوتا ہے۔ عامٌ ازَبُّ :زیادہ پیداوار کا سال۔ داهیةٌ زَبّاء :بڑی مصیبت۔ المُزِبّ و المُزَبّب :مال دار۔

۲۔ زَبَّ ۔زَبًّا القِربَةَ :مشک بھرنا۔ زَبَّبَ الرجلُ :

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زیادہ بولنے سے منہ سے جھاگ نکلنا۔ کہتے ہیں۔ تـکـلـم فلان حتی ذبب فَمُہٗ :یعنی بولتے بولتے فلاں شخص کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ تزبّب الرجلُ : آدمی کا غصہ سے بھر جانا۔ و۔ فـی الـکـلام : زیادہ باتیں کرنے سے اس کے منہ سے جھاگ نکل آئی۔ ازدبّ تِ الـقربةُ :مشک کا بھر جانا۔ الزبیبة : جھاگ جو زیادہ بولنے والے کے منہ سے نکلنے لگتی ہے۔

۳۔ زَبَّ ۔ زَبّاً الحِملَ :بوجھ اٹھانا۔

۴۔ زَبَّـبَ العـنـبَ :انگور کو خشک کر کے میوہ بنانا۔ أَزَبَّ ازبَـاباً العنبَ :انگور کو خشک کرنا۔ تَـزَبَّب العنبُ : انگور کا زبیب (خشک انگور) بن جانا۔ الزبیب واحد الـزَبیبة :خشک انگور یا انجیر۔ الـزبّـاب :خشک انگور اور انجیر بیچنے والا۔ الـزبیبی :ایضاً، کشمش، خشک انگور کی شراب۔

۵۔ الـزَبیـب :سانپ کے منہ میں زہر۔ الـزَبیبة :ہاتھ کی پھنسی۔ الـزَبیبتـان : سانپ کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے، اس لئے سانپ کو ذات الزبیبتین کہا جاتا ہے۔ الزَبَابَة (ح) بہرا چوہا جو چوری میں ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں۔ اسرق من زَبَابَة :زبابہ سے بھی بڑا چور۔

۶۔ زَبْـزَبَ : غضب ناک ہونا، جنگ میں شکست کھانا۔ الزُبْزَب جمع زبازِب (ح) بلی نما ایک جانور، ایک قسم کی کشتی۔

○ زُبّ جمع ازباب :مردانہ عضو تناسل۔

○ ازَبّ م زَبّـاء جمع زُبّ :بالوں سے بھرا ہوا، بالوں والا، روئیں دار جھبرا۔

زبد۔ ا۔ زَبَدَ ۔ زَبْدًا ہ :(کو) مکھن کھلانا۔ و۔ السقاءَ : مشک کے دودھ کو بلو کر مکھن نکالنا۔ و۔ ۔ زَبْـــدًا السویقَ : ستو میں مکھن ملانا۔ و۔ لہٗ : (کو) مکھن دینا۔ زبَّـدَ الـلـبـنُ :دودھ کا مکھن لانا، دودھ پر مکھن آ جانا۔ تَـزَبَّـدَ الزُبْدَةَ : مکھن لینا۔ و۔ الشیءً :چیز کا مکھن یا خلاصہ لے لینا۔ (کو) نگلنا۔ و۔ الیمینَ : قسم کھانے میں جلدی کرنا۔ اس کے گناہ کے وبال کے پروا کئے بغیر۔ الـــزُبْـدُ جمع زُبَـد : مکھن، لوگوں کی کہاوت :اختـلـط زُبْـدُہٗ بـخاثرہ کا مطلب ہے وہ اپنے معاملہ میں حیران ہوا۔ الـــزُبْــد :داد و دہش، عطاء۔ الزُبْدَة جمع زُبَد : مکھن۔ زُبْدَةُ الشیِ :چیز کا بہترین حصہ، لوگوں کے اس قول۔ کَاَنَّ لقاءَكَ زُبْدَةُ العمر :کا معنی ہے: گویا تیری ملاقات عمر کی بہترین بات ہے۔ الزُبَّاد : مکھن۔ المِزْبَدَ جمع مَزَابِد : مکھن نکالنے کا آلہ، مدھانی، متھنی۔ الُمزْدِبد : مکھن والا۔

۳۔ زَبَّدَ شَـدَقُہٗ :باچھ کا جھاگ نکالنا۔ باچھوں سے جھاگ نکلنا۔ و۔ الـقـطـنَ :روئی کو دھن کر کاتنے کے قابل بنانا۔ ازْبَـدَ الـبـحـرُ او الـقِـدْرُ او الفمُ :سمندر یا ہانڈی یا منہ کا جھاگ نکالنا کہتے ہیں: ارْغـی الرجل و ازْبَــدَ :اس کا غصہ بھڑک پڑا اور اس نے سخت دھمکی دی۔ و۔ الشـــیءُ :کسی چیز کا انتہائی سفید ہونا۔ و۔ الـسِـدْرُ ونـحـوہ :بیری وغیرہ کا شگوفہ نکالنا۔ تَـزَبَّدَ الشـدقُ :باچھ سے جھاگ نکلنا۔ و۔ الـــرجـــلُ : غضبناک ہونا اور دھمکی دینا۔ الـــزَبَـد جمع ازْبَــاد و الـزَبَدَة جمع زَبَد : جھاگ، دھاتوں کا میل، اس سے ضرب المثل ہے۔ صـرّح الـمـحـضُ عن الزبَد: اس مثل میں زَبَد سے دودھ پر آئی ہوئی جھاگ مراد لیتے ہیں اور اس وقت بولی جاتی ہے جب ظنی خبر کے بعد سچی بات ظاہر ہو جائے۔ بے فائدہ چیز۔ زُبَّــادُالـلبن :وہ چیز جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ مثل مشہور ہے۔ اخـتَـلَـطَ الخاثر بالزُّباد : اچھی چیز ردی چیز سے مل گئی۔ الـمُزْبِد (فا) :جھاگ پھینکنے والا۔ بحرٌ مُزْبِدٌ :متلاطم سمندر جو جھاگ پھینکے۔ المُزْبِدَة (ح) دو رنگے پروں والا کیڑا جس کے منہ سے جھاگ دار لعاب نکلتا ہے۔

۳۔ الـزَبَـاد :ایک بلی کے مانند جانور سے اخذ کردہ، خوشبودار مادہ۔ و۔ وسـنّـورُ الزَبَاد و قط الزَبَاد (ح): ایک جانور جو اپنے سرین کے نیچے ایک تھیلی رکھتا ہے جس میں خوشبودار مادہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ الـزُبَّـاد : (ن) ایک قسم کا پودا۔ الـزِبْدِیَة جمع زَبَـادیّ : مٹی کا پیالہ۔

○ زَبَدَ ـــــ زَبْدًا ہ :دودھ بلونا، دودھ بلو کر مکھن بنانا۔ زَبَّـدَ :جھاگ لانا یا نکالنا، جھاگ دینا، کریم بننا (دودھ کا) ازْبَدَ :جھاگ خارج کرنا، جھاگ دار ہونا، جھاگ جھاگ ہو جانا، کف در دہن ہونا، غصہ میں آ جانا زَبَـدٌ جمع ازْبَــاد : جھاگ، کف، پھین، فضلہ، میل۔ زبـد الـبـحـر :سی کیٹ۔ زُبْـدَة :مکھن، کریم جمع زُبَد :عمدہ ترین حصہ، اعلیٰ، بہترین حصہ، ممتاز افراد، جوہر، خلاصہ، اہم نکتہ۔ زَبْدِیَة :جمع زَبَـادی :پیالہ، کاسہ۔ زَباد :مشک بلاؤ۔ سِـنّـور الزباد :ایک بستانی درندہ۔ زَبَادی اور لَبَـن زبادی :جمایا پھٹا ہوا دودھ۔ مِـزْبَد و مِـزْبَـدَة جمع مَـزَابِد : متھنی، متھانی، بلونی، مدھانی، مکھن نکالنے کی مشین۔

زبر : ا۔ زَبَرَ ـُ زَبْـرًا البئرَ : کنویں کو پتھروں سے بنانا۔ و۔ البناءَ :عمارت پر عمارت اٹھانا۔ و۔ ہٗ عن الامر : کو کسی کام سے روکنا، منع کرنا۔ و۔ الســائلَ :سائل کو جھڑکنا۔ و۔ الـرجلَ :کو پتھر مارنا۔ الـزَبْر (مص): پتھر، عقل۔ الـزبْر : عقل کہتے ہیں۔ مـالـہٗ زبْرٌ : (اسے عقل نہیں)۔ الـــزَبُــور جمع زُبُــر : فرشتہ۔ الزَبِیر :ہوشیار آدمی۔

۲۔ زَبَرَ ۔ زَبْرًا علیہ :پر صبر کرنا۔

۳۔ زَبَرَ ۔ زَبْـرًا و زَبَّرَ وازْدَبَرَ الکتابَ :کتاب لکھنا۔ الــزَبْـر (مص) :تحریر، کلام۔ الــزِبْـر جمع زبُـور : کتاب۔ الــزَبُـور جمع زُبُـر : کتاب۔ عموماً حضرت داؤدؑ پر نازل شدہ کتاب، مزامیر۔ الزَبِـر : لکھی ہوئی چیز۔ التَزْبِرَة : زَبَّرَ کا مصدر، تحریر، کتابت۔ المِزْبَر : قلم۔

۴۔ زَبُرَ ۔ زَبَارَةً :بڑے جسم والا ہونا، ازْبَرَ الرجلُ :ایضاً، بہادر ہونا۔ ـــ الکبشَ :مینڈھے کو موٹا کرنا۔ الزَبْر : سخت طاقت ور۔ الزُبْرَة جمع زُبَر و زُبُر :لوہے کا بڑا ٹکڑا۔ ارَن، کاندھا اور پیٹھ۔ الـزِبِرّ :سخت طاقت ور۔ الـزبیر : مضبوط شخص۔ الأزبَـر م زَبْرَاء جمع زُبُر والمُزْبِر :چوڑے کندھوں والا۔

۵۔ اِزْبَـأَرَّ اِزْبِـئـراراً الـنباتُ او الوبَرُ : نبات یا اونٹ کے بالوں کا اُگنا۔ و۔ الـشَـعـرُ :بال کھڑے ہونا۔ و۔ الکلبُ :کتے کا اپنے بال کھڑے کرنا۔ ـ الرجلُ: شر و فساد کے لئے تیار ہونا۔ و۔ الـزَبَـر و الـزَابِر : کہتے ہیں۔ اخذہ بزَبَرِہ او بزَابِرِہ : اپنی قوت مجتمع کرنا۔ الزُبْرَة جمع زُبَر و زُبُر : شیر کی ایال۔ الأزْبَرَم زَبْـرَاء جمع زُبْـر :ایذا رساں، شیر۔ مَـزْبـرانـی : گھنی ایال والا۔

۶۔ الَـزَبُور جمع زُبُـر :فرقہ گروہ۔ الـزَبِیـر :ظریف اور ہوشیار آدمی، کیچڑ۔ ارض مـزبَرَة :بہت بھڑوں والی زمین۔

۷۔ زَبْرَجَ الشَیءَ : چیز کو خوبصورت بنانا اور اسے آراستہ و پیراستہ کرنا۔ الزِبْرِج زَبَارِج :گلکاری و مینا کاری کی زینت، ہر خوبصورت شئے۔ سونا، سرخ پتلا بادل۔

۸۔ الـزَبَـرْجَد جمع زَبَارِج :زبرجد (ایک قیمتی پتھر جو زمرد سے مشابہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مشہور سبز رنگ کا ہے۔ (فارسی لفظ ہے)۔

۹۔ زَبْـــرَقَ الثَــوبَ : کپڑے کو لال یا پیلا رنگ دینا، کپڑے کو سرخ یا زرد رنگ میں رنگنا۔

○ زَبَرَ ـــِـ زبراہٗ :کو جھاڑ جھپاڑ کرنا۔ زُبِر :مرد کا آلہ تناسل۔ زُبْرَة جمع زُبَر :لوہے کا ٹکڑا۔ زَبُور :حمد و ثناء کی کتاب۔ زَبُور۔

زبط : زَبَطَ ۔ زَبْـطاً و زَبِیطاً البطُّ : بطخ کا چلانا۔ الزِیَاطَة و الزَبَاطَة (ح) بطخ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

○ زَبَط: کیچڑ۔ دلدل۔ ذُباطَة: کھجوروں کا خوشہ، گچھا۔

زبع: ۱۔ تَـزَبَّعَ: بدخلق ہونا، غصے والا ہونا، جھگڑالو ہونا۔ الزِّبِعِیّ: غصہ ور جھگڑالو۔ الزَّوْبَعَة جمع زَوَابِع: بگولہ اسے اُمّ زَوْبَعَة و ابوزَوْبَعَة بھی کہتے ہیں۔ الرَّوَابِع: مصیبتیں۔

۲۔ الزَّوْبَع: حقیر، پست قد۔

۳۔ الزِّبِعْرَی: بدخلق، موٹا، چہرے اور ابرو پر زیادہ بالوں والا، مگرمچھ کی مادہ۔

۴۔ الزِّنْبَاعَة: جوتے کی نوک۔

زبق: ۱۔ زَبَقَ - زَبْقاً شَعرَهُ: بال اکھیڑنا۔ وـتِ المرأةُ بولدها: عورت کا اپنے بچے کو پھینک دینا۔ الازبق: وہ احمق جو اپنی بے وقوفی سے اپنی داڑھی کے بال نوچے۔ الزَّبِیقَةُ و الْمَزْبُوقَةُ من اللحی: نوچی ہوئی داڑھی۔

۲۔ زَبَقَ - زَبْقًا ہ فی السجن: کو قید میں ڈالنا اور تنگی میں ڈالنا۔ وـہُ فی الشیء: کو کسی چیز میں داخل کرنا۔ -- الشیءَ بالشیء: کسی چیز کو دوسری شے میں ملانا، خلط ملط کرنا۔ اِنْـزَبَقَ فی البیت: گھر میں داخل ہونا۔ وـفی الحبالة: جال میں پھنسنا، چھپنا۔ الزَّابُوقة من البیت: گھر کا گوشہ، کونا۔

۳۔ زَبَقَ - زَبْقاً القُفْلَ: تالا کھولنا۔

زبل: زَبَلَ - زَبْلاً و زَبَّلَ الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا، زمین کھاد ڈال کر اسے زیادہ پیداوار کے لائق بنانا۔ الـزِّبْل: (ز) کھاد، گوبر، لید۔ الـزِّبْـلَة و الـزَّبِیل: کھاد۔ الـمَزْبَلة و الـمُزْبُلة جمع مَزَابِل: کوڑا کرکٹ جمع ہونے کی جگہ، کوڑی، گھورا، کوڑا کرکٹ ڈالنے کی بالٹی۔

۲۔ زبـل زَبْلاً و اِزْدَبَلَ الشیءَ: چیز اٹھانا لے جانا لانا۔ الزُّبْلة: لقمہ۔ الـزُّبَال و الزِّبَال: وہ چیز جسے چیونٹی منہ میں اٹھا کر لے جائے کہتے ہیں۔ مـا اصاب منه زبالاً: اس نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ الزُّبالَة: تھوڑا سا پانی کہتے ہیں۔ مَـافِی الْبِئْرِ زُبَالَة: کنویں میں تو تھوڑا پانی بھی نہیں۔ الزَّبِیل جمع زُبُل زُبْلاَن و لزِبِّیل جمع زَبَابِیل والزِّنْبِیل والزِّنْبِیل جمع زَنَابِیل: ٹوکرا، برتن، توشہ دان۔

۳۔ الزَّابِل و الزَّابَل: پست قد۔

○ زَبَّــالِ: گلیوں میں جھاڑو دینے والا، کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والا۔ زُبَــالة: کوڑا کرکٹ، فضلہ، گندگی، میلا، غلاظت۔

زبن: ۱۔ زَبَنَ - زَبْنَاہُ: (کو) ہٹانا۔ ایک طرف کرنا۔ دھکیلنا، ٹکرانا۔ وـتِ الناقةُ: اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقت، گھٹنے سے مارنا کہتے ہیں۔ زَبَـنَ عَنّاً مَعْرُوفَه: اس نے اپنی بھلائی ہم سے روک لی۔ زَابَــنَ ہُ مُزابنةً: ایک دوسرے کو ہٹانا، دھکیلنا۔ ازْبَـنَ بیتَـهُ عَـنِ الطریق: راستہ سے ہٹ کر مکان بنانا۔ تزَبَّنَ ہُ: (پر) غالب آنا۔ تـزَابَـنَ الـقومُ: لوگوں کا ایک دوسرے کو ہٹانا دھکیلنا۔ اِنزَبَنَ القومُ: لوگوں کا ایک طرف ہٹ جانا۔ بیتٌ زَبْنٌ: گھروں سے ہٹ کر بنا ہوا گھر۔ مـقـامٌ زَبْـنٌ: تنگ جگہ جہاں انسان کھڑا نہ ہوسکے۔ الزَّبَن: گوشہ کنارہ۔ الزِّبِن و الزُّبُن: بہت تنگ۔ زُبُنَّتا الناقةِ: اونٹنی کی دونوں ٹانگیں۔ الزَّبُونُ مـن النوق: دوہتے وقت زانوں پھٹکانے والی اونٹنی۔ حـربٌ زبونٌ: شدید جنگ۔ الـزَّبُّـونَة و الزَّبُونة: گردن کہتے ہیں۔ فیـہ زبُّـونة: یعنی وہ متکبر ہے۔ زُبـانَـی العقرب جمع زبانیات بچھو کا ڈنک۔ زُبـانِیا الـعـقـرب: بچھو کے سینگ۔ الـزِّبْنِیَة جمع زَبَانِیَة: سخت، سپاہی، افسر، سرکش جن و انسان۔ الـزَّبَـانِیَة: سپاہی، دوزخیوں کو جہنم کی طرف دھکیلنے والے فرشتے۔

۳۔ زَبَنَ - زَبْنـا الثمرَ: پھل کو درخت پر ہی فروخت کر دینا۔ الـمُزَابَنَة: نامعلوم پیمانہ، تعداد اور وزن والی چیز کی معلوم مقدار کے ساتھ فروخت۔ الـزَّبُّون جمع زُبُن و زبونات: گاہک، خریدار۔

۴۔ الـزَّبُّـون: کند ذہن، بیوقوف (اس معنی میں یہ لفظ فصیح نہیں اس کی اصل فارسی زبان ہے)۔

○ زَبُون: ہوٹل کا مہمان۔ زَبُـون دائم: مستقل گاہک، سرپرست۔ زُبُون: زیر جامہ۔

زبی: ۱۔ زَبَی - زَبْیاً و اِزْدَبَی ہُ: (کو) اٹھا لے جانا۔ ہانکنا۔ زَبَّی فلاناً: کو ہانکنا۔ اَزْبَی اِزْبَاءً ہُ: (کو) اٹھا لے جانا۔ الأَزْبِیّ جمع اَزَابِیّ: ایک قسم کی چال، سرعت، نشاط۔

۲۔ زَبَی ـــ زَبْیـاہُ بشرٍّ: پر برائی کا الزام لگانا۔ زَبَّ اللحمَ: شکار کے گڑھے میں گوشت بکھیرنا۔ ــــ الزُّبْیَة: شکار کے لئے گڑھا کھودنا۔ تَزَبَّی الزُّبْیَة: ایضاً ــ فی الزُّبْیَة: گڑھے میں شکار کے لئے چھپ جانا۔ الزُّبْیَة جمع زُبًی: روٹی پکانے یا گوشت بھوننے کا گڑھا۔ درندوں کے شکار کے لئے گڑھا، پشتہ جس پر پانی نہ چڑھے کہتے ہیں بلغ السیلُ الزُّبَی: معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ الأَذْبِی جمع اَزَابِی: بڑا معاملہ۔ برائی۔

۳۔ تَزَابَی تَزابیاً: تکبر کرنا، مغرور ہونا۔

زجّ - ۱۔ زَجَّ - زَجّاً ہُ: (کو) نیزے کے پچھلے سرے کے لوہے سے مارنا۔ وـ بالشیء: کوئی چیز پھینکنا۔ وـ بالرمح: نیزہ مارنا۔ تزجّجا و ازدجّ حاجبُہُ: کے ابرو کا دراز اور باریک ہونا۔ اَزَجُّ م زَجّاءُ جمع زُجّ: جس کے ابرو دراز اور باریک ہوں۔ حاجِبٌ اَزَجُّ: دراز اور باریک ابرو۔ زَجَّجَ الحاجبَ: ابرو کو باریک اور دراز بنانا۔ وـ الموضعَ: جگہ کو ٹھیک اور ہموار کرنا۔ کہتے ہیں۔ نَقَر خشبةً ثُمَّ زَجَّجَ موضعَ النقر: اس نے لکڑی کو کھودا پھر کھدی ہوئی جگہ ٹھیک اور ہموار کیا۔ اس کی اصل تزجیج الحواجب ہے۔ یعنی ابروؤں سے زائد بال دور کرنا۔ اَزَجَّ: نیزے کے پچھلے سرے کو نکالنا ــــ الرمحَ: نیزے کے پچھلے سرے پر لوہا لگانا۔ الزُّجّ جمع زِجَاج و اَزِجَّه و زِجَجَة: نیزے کے پچھلے سرے کا لوہا (مثل ہے۔ جعل الزُّجّ قدّام السنان: یعنی اس نے ادنیٰ کو اعلیٰ پر فضیلت دی) تیر کا پھل۔ کہنی کا سرا، کبھی زِجاج کو نیزوں کے معنی میں بھی لیتے ہیں، جزء کے بدلے کل کے طور پر۔ الزُّجَج: پھل لگے ہوئے چھوٹے نیزے۔ رُمْحٌ مُزَجّ: نیزہ جس کے پچھلے سرے پر لوہا لگا ہو۔ المِزَجّ: چھوٹا نیزہ۔ المِزَجَّة: موچنا پنسل (ابرو بنانے والی)

۲۔ زَجَّ - زَجًّا: دوڑنا۔ الاَزَجّ: لم ڈھینگ۔

۳۔ الـزُّجُـج: سدھائے ہوئے گدھے۔ الـزُّجـاج والـزَّجَاج والزِجَاج: شیشہ۔ زُجَاجة و زَجاجَة وزِجـاجة: شیشے کا برتن، شیشے کا ٹکڑا۔ شیشے کی بوتل، گلاس، تھرموس۔ الـزِجُـاجَة: شیشہ سازی کا پیشہ۔ الزَّجّاج: شیشہ گر۔ الزُّجَاجی: شیشہ بیچنے والا۔

○ زَجَّ ـُ زَجًّا ہ: کوئی چیز پھینکنا۔ ہ و ھ / ب: کو دھکیلنا، ٹھونسنا، ٹھونکنا۔ ــــ ہ و ھ / ب فی: کو میں ٹھونسنا۔ زُجَّ بـہ فـی السجن: اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ زَجَّجَ الحاجبین: بھویں بنانا۔ ابرو بنانا ــ ھ: میں شیشے لگانا، پر مینا کاری کرنا۔ مُـزَجَّـج: مینا کاری کیا ہوا۔ شیشہ کا روغن کیا ہوا۔ مُزَجَّجات و مصنوعات مُزَجَّجَة: مینا کاری کئے ہوئے برتن۔

زجر: ۱۔ زَجَرَ - زَجْرًاہُ عن کذا: کو (سے) منع کرنا، روکنا، باز کرنا، (کو) چلا کر نکال باہر کرنا۔ وـتِ الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اٹھا کر لانا۔ ــــ الکلبَ وبالکلب: کتے کو ڈانٹنا۔ دھتکارنا۔ ــ الطیرَ: پرندہ کو فال لینے کے لئے اڑانا، اگر پرندہ سیدھی طرف اڑتا تو اس کو نیک فال جانتے اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اسے بدشگونی سمجھتے۔ الـرجلُ: آدمی کا کہانت کرنا، کہتے ہیں۔ زجـرتُ ان یکون کذا و کذا: میں نے ایسا ہونے سے خبردار کیا۔ تـزَاجَـرَ الـقومُ عن الشرّ: ایک دوسرے کو برائی سے روکنا۔ اِنْزَجَرَ: منع

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنے پر رک جانا اور باز رہنا۔ اِزْدَجَر :منع کرنے
پر رک جانا اور باز رہنا۔ ہٗ : (کو) منع کرنا، روکنا
(کو) چلا کر باہر نکال دینا۔ زَاجِرُ الانسان :انسان
کا ضمیر۔ ابو زاجر :کوے کی کنیت۔ الزَجّار :
بہت ڈانٹنے والا۔ ناقةٌ زَجُورٌ :بغیر ڈانٹے دودھ نہ
دینے والی اونٹنی۔ المزجَر :ڈانٹنے کی جگہ۔ والمزجَرَة :
ڈانٹنے والی بات یا چیز۔ کہتے ہیں۔ ذکرُ اللّٰہ مَزجرةٌ
للشیطان :یعنی اللہ کا ذکر شیطان کو بھگانے والا ہے۔
۲۔ الزَجر و الزَجَر جمع زُجُور : بڑے جسم کی مچھلی۔
○ زَجری :اصلاحی، مَعْهَد زجری :اصلاحی قید خانہ،
اصلاحی مدرسہ۔ قَعَدَ مِنهُ مَزجَرَ الکَلب :کسی سے
مناسب فاصلہ پر بیٹھنا۔ زاجر : رکاوٹ، زاجِرَة
جمع زَوَاجِر :پابندی، بندش، قید۔

زجل :۱۔ زَجَلَ -ُ زَجْلاً ہٗ وبہ : (کو) تیر مارنا، ہٹانا۔ ہٗ
بالرمح : (کو) نیزہ مارنا۔ ــــ الحَمَامَ :کبوتر کو دور
بھیجنا۔ حمامُ الزاجل یا الزجال : پیغام رساں
کبوتر۔ الزَاجِل و الزَاجَل جمع زَوَاجِل :فوج کا
سالار، نیزے کے نچلے حصہ کے لوہے کا حلقہ، رسی
کے سرے پر باندھنے کا لکڑی کا گول ٹکڑا۔ الزَجّالَة :
چھوٹے نیزے سے مارنے والے۔ مسافةٌ زَجُولٌ :
لمبی مسافت۔ المَزجَل :کبوتروں کو روانہ کرنے کی
جگہ۔ المِزْجَل و المِزْجَال :چھوٹا نیزہ، برچھی۔
۲۔ زَجِلَ -َ زَجَلاً : خوش ہونا، گانا، شوروغوغا کرنا کہتے
ہیں۔ هو زَجِلٌ وزاجِل :ایسا شخص۔ ــــ القومُ :
لوگوں کا کھیل کود کرنا۔ الزَجَل :شعر کی ایک قسم۔ سحابٌ
ذو زَجَل :گرجنے والا بادل۔ زَجَل الجِنّ : مدھم
آوازیں جو بیابانوں میں سنی جاتی تھیں، جن سے
ریت کے ٹیلے گرنے لگتے تو عربوں کو گمان ہوتا کہ یہ
جنوں کی آوازیں ہیں۔ الزُجْلَة جمع زُجَل :لوگوں کی
جماعت۔ الزَجْلة جمع زَجَلات :لوگوں کی آواز اور
شوروغل۔
۳۔ الزُجْلَة جمع زُجَل :ہر چیز کا ٹکڑا، دونوں آنکھوں کے
درمیان کی کھال، حالت۔

زجم :زَجَمَ -ُ زَجْماً : کانا پھوسی کرنا، خفیہ بات سنانا،
کہتے ہیں۔ سَکَتَ فما زجم بحرفٍ :یعنی وہ
چپ رہا اور ایک حرف نہیں بولا۔ الزُجْمَة الزَجْمة :
آہستہ بات، خفیہ بات کہتے ہیں۔ لم اسمع لهٗ
زَجْمةً :میں نے اس کی آہستہ آواز نہیں سنی۔ اور هو لا
یخالفه بزجمةٍ :یعنی وہ اس کی کسی بات سے مخالفت
نہیں کرتا۔ قوسٌ زَجُومٌ :کمزور آواز نکالنے والی
کمان۔ الزُجَّم : (ج) پرندہ۔

زجا :۱۔ زَجا -ُ زَجْواً و زَجّیٰ تَزجِیَةً و اَزْجیٰ
اِزْجاءً و اِزْدَجیٰ ہٗ : (کو) ہانکنا، نرمی سے ہٹانا کہتے
ہیں :کیف تُزَجّی ایامك :تم اپنا زمانہ کیسے گزارتے
ہو۔ ازجَی الامرَ :معاملہ کو ملتوی کرنا۔ تَزَجّی
تَزَجِّیًا بالشیء :پر اکتفا کرنا، قناعت کرنا۔ الأُزْجِی :
اسم تفضیل کہتے ہیں۔ فلان ازجی من فلان بهذا
الامر : یعنی وہ فلاں سے یہ معاملہ زیادہ نافذ کرنے
والا ہے۔ المُزجی م مُزجاة :تھوڑی یا ردی چیز۔
المُزَجّی : پیش پا امور میں سے کمزور، ملتوی شدہ، امر
جسے آگے لانے اور انگیخت کرنے کی ضرورت ہو۔
۲۔ زَجا -ُ زَجْوًا و زُجُوًّا و زَجاءً الخراجُ : خراج کا
بسہولت جمع ہونا۔ الامرُ :بات کا کامیاب ہونا آسان
ہونا۔ زَجّی تَزجِیَةً فلانٌ حاجتی : (کسی) کا
میری ضرورت کا حصول آسان بنانا۔ ازجَی الدرهمَ :
درہم کو رواج دینا۔
۳۔ زجا -ُ زَجْوًا و زُجُوًّا و زَجاءً فلانٌ :کی ہنسی بند
ہونا۔
○ زَجّا -ُ زَجْوًا ہ و ھ :کو آگے بڑھانا۔ ہ و ھ فی :کو
میں ٹھونسنا۔ زَجّی ہ و ھ :کو دھکیلنا، ہانکنا، آگے بڑھانا۔
ــــ ہ و ھ الی :کو میں ٹھونسنا، گھسیڑنا، کو زبردستی میں
لانا۔ ــــ ھ :وقت گزرنے دینا، وقت گزارنا۔ اَزْجاہ
و ھ : کو دھکیلنا، آگے بڑھانا۔ ہ و ھ الی :کو میں
ٹھونسنا، گھسیڑنا، کو زبردستی میں لانا۔ ہ :وقت گزارنا،
ــــ ھ الی :مبارکباد، شکریہ وغیرہ کسی کو پیش کرنا، کی
تعریف کرنا۔ اَزْجی الی الذهن ان :خیال یا مفروضہ
تجویز کرنا کہ ــــ مُزْجی :تھوڑا، بہت کم، بمشکل کچھ،
معمولی سا، غیر اہم۔

زح :۱۔ زَحّی -ُ زَحًّا ہٗ : (کو) جلدی سے ہٹانا یا کھینچنا۔
عن مکانه : (کو) اس کی جگہ سے علیحدہ کرنا، ایک
طرف کرنا۔
۲۔ زَحْزَحَ ہٗ عن مکانه فتَزَحْزَحَ : (کو) اس کی جگہ
سے دور کرنا یا ہٹانا اور اس کا اس جگہ سے دور ہو جانا اور
ہٹ جانا۔ الزَحْزَح :دوری کہتے ہیں۔ هو بِزَحْزَحٍ
منه :یعنی وہ اس سے دور ہے۔ الزَحْزاح :
دور، بعید۔

زحب :زَحَبَ -َ زَحْباً الیه :سے قریب ہونا۔

زحر :۱۔ زَحَرَ -َ زَحِیرًا و زُحارًا و زُحارَةً :پیچش میں
مبتلا ہونا، عمل یا سختی سے آہ بھرنا۔ تْ به اُمُّهٗ :ماں کا
اسے جننا۔ زُحِرَ :کا پیچش میں مبتلا ہونا۔ زَحَّرَ :کو
پیچش کی شکایت ہونا۔ تَزَحَّرَ : (کا) پیچش میں مبتلا
ہونا۔ ت عنه اُمُّهٗ :ماں کا اسے جننا۔ الزُحَر
والزَحّار والزَحْران :بخیل، جیسے سوال کرنے پر
کراہتا ہو۔ الزُحار والزَحیر : (طب) پیچش۔
۲۔ زَحَرَ -َ زَحِیراً و زُحاراً و زُحارةً ہ بالرمح :
(کو) نیزہ سے زخمی کرنا۔ زاحَرَہٗ :سے دشمنی کرنا۔
○ زحیر :کراہ، زُحار :کراہ، پیچش۔

زحف :زَحَفَ -َ زَحْفاً و زَحَفاناً و زُحُوفاً : (کا)
اپنے سرین یا گھٹنوں کے بل آہستہ آہستہ گھسٹنا۔ ــــ
الیه : کی طرف چلنا کہا جاتا ہے۔ زحف العسکر
الی العدو :اپنی کثرت کی وجہ سے لشکر دشمن کی طرف
آہستہ آہستہ بڑھا۔ و۔ الشیء :چیز کو ہلکے سے کھینچنا۔
و۔ البعیرُ :اونٹ کا تھک جانا۔ ایسا اونٹ زاحف و
زاحفه ہے : تا مبالغہ کے لئے ہے۔ ایسی اونٹنی۔
زاحفة جمع زواحف و زحوف جمع زُحُف ہے۔
و۔ السهمُ :تیر کا نشانہ کے ورے گر کر پھر نشانہ کی طرف
بڑھنا، ایسا تیر زاحف ہے جس کی جمع زواحف آتی
ہے۔ زاحفناهم :ہمارا ایک دوسرے کی طرف آہستہ
آہستہ بڑھنا۔ اَزحَفَ :انتہائی مقصد تک پہنچنا۔ ہٗ
طُولُ السَفَر :سفر کی طوالت کا کسی کو تھکا دینا۔ و۔
البعیرُ :اونٹ کا تھک جانا۔ و۔ الرجلُ : تھکے ہوئے
اونٹ یا گھوڑے والا ہونا۔ و۔ بنو فلان : بنی فلان کا
دشمن کی طرف بڑھنے والا لشکر بن جانا۔ تَزَحَّفَ و
اِزْدَحَفَ الیه :کی طرف چلنا۔ تزاحف القوم فی
الحرب :لوگوں کا لڑائی میں ایک دوسرے کی طرف
بڑھنا اور قریب ہونا۔ الزَحْفُ : (مص) جمع زُحُوف :
دشمن کی طرف بڑھنے والا لشکر جرار۔ الزُحْفة :نزدیکی
مقامات تک سفر کرنے والا، جو ملک میں لمبے سفر نہ
کرے۔ الزِحاف :علم عروض میں۔ سبب ثقیل یا
خفیف کا تغیر۔ الزَحّاف مونث زَحّافَة :بہت کوچ
کرنے والا۔ الجراد الزحّاف :زمین پر چلنے والی
ٹڈی، اس کی ضد طیار ہے۔ الزَحّافات (ح) زمین پر
رینگنے والے جانور جیسے کچھوا۔ المَزْحَف :ڈھلوان
جگہ جو ہوائی جہاز کے بموں کے اس پر پھسلنے کے لئے
تیار کی جاتی ہے۔ المَزْحَف جمع مَزَاحِف :پھسلنے کی
جگہ۔ مزاحِفُ الحیّات : سانپوں کے رینگنے کی
جگہیں و ــــ السحاب : بادل کا قطرہ گرنے کی
جگہ۔ بعیر مِزحاف جمع مَزاحِف و مَزاحِیف :
تھکنے کا عادی اونٹ۔
○ زَحْف :کوچ، پیش قدمی، (فوج کی) جمع زُحُوف :
فوج۔ زَحّاف :رینگنے والا، گھسٹنے والا، گھسیٹنا، پیٹ کے
بل چلنے والا۔ زَحّافَة جمع زَحّافات :رینگنے والا جانور،
زمین ہموار کرنے کا آلہ، ہموار کرنے والا، لمبا برفانی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جوتا۔ زاحِف: رینگنے والا، گھسٹنے والا، پیٹ کے بل چلنے والا، زواحف: رینگنے والے جانور۔

زحلك: ۱۔ زَحَلَ - زَحُكاً بالمكان: کسی جگہ میں ٹھہرنا، قیام کرنا۔ و۔ منهُ: (کے) قریب ہونا یا اس سے دور ہونا (ضد) تَزَاحَكَ القومُ: لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب ہونا یا ایک دوسرے سے دور ہونا (ضد)۔

۲۔ زَحَكَ - زَحُكاً عنهُ: سے دور ہونا۔ زَاحَكَ هُ عن نفسه: کو اپنے سے دور کرنا۔ تَزَاحَكَ القوم: لوگوں کا ایک دوسرے سے دور ہونا، نزدیک ہونا۔ (ضد)

۳۔ زَحَكَ - زَحُكاً البعير: اونٹ کا تھک جانا۔ اَزْحَكَ الرجلُ: تھکی ہوئی سواری والا ہونا۔

زحل: ۱۔ زَحَل - زَحُولاً عن مكانه: (کا) اپنی جگہ سے دور ہونا، ہٹ جانا، کنارہ کش ہونا، ایسا شخص زَاحِل اور زَحِل کہلاتا ہے۔ زَحَّلَ هُ: (کو) دور کرنا۔ اَزْحَلَ هُ: کو دور کرنا۔ و۔ اَزْحَلَ هُ اِليه: پر مجبور کرنا۔ تَزَحَّل عن مكانِه: اپنی جگہ سے ہٹنا اور دور ہو جانا۔ زُحَل (فلك): ایک ستارہ کا نام جو اپنی بلندی اور دوری میں ضرب المثل ہے۔ رجلٌ زُحَل: وہ شخص جو اپنے کام سے کنارہ کش ہو جائے، اچھا ہو یا برا۔ الزُّحَلَة: کاموں سے کنارہ کش آدمی۔ نزدیکی جگہوں تک سفر کرنے والا (ح) وہ جانور جو اپنے بل میں پہلے دم داخل کرے پھر سر۔ مسافةٌ زُحُولٌ: دور کی مسافت۔ الزُّحْلُول: تنگ پھسلنے والی جگہ۔ الزِحْلِيل: الگ رہنے والا، تنگ پھسلنے والی جگہ۔ المَزْحَل: زَحَلَ کا مصدر میمی، تنہائی کی جگہ کہتے ہیں۔ اذالم يكن عن شَفْرة السيف مزحَلٌ: جب تلوار کی دھار سے بچنے کا موقعہ نہ ہو۔

۲۔ زَحِلَ - زَحَلاً: (کا) تھک جانا۔

۳۔ الزُّحْلُول: ہلکے پھلکے جسم والا۔ الزِحْلِيل: تیز۔

۴۔ زَحْلَفَ الشيءَ: کو چیز کو لڑھکانا، کنارہ پر کرنا۔ و۔ في الكلام: بولنے میں تیزی کرنا۔ تَزَحْلَفَ: لڑھکنا، ایک طرف ہونا۔ و۔ تِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا یا دوپہر کو سر پر سے ڈھلنا۔ الزُّحْلُوفة جمع زَحَالِف و زَحَالِيف: پھسلنی ڈھلوان جگہ۔ الزَحَالِف: (ح) چیونٹی سے مشابہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے۔

۵۔ زَحْلَفَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

۶۔ زَحْلَقَ و زَحْلَكَ و تَزَحْلَقَ و تَزَحْلَكَ: دیکھو زحلف و تزحلف: کہتے ہیں۔ تزحلق على الجليد: وہ برف پر پھسلا۔ الزُّحْلُوقَة و الزُّحْلُوكة: ہنڈولہ۔ انگریزی میں See saw۔

○ زَحْلَقَ هُ: کو پھسلانا، لڑھکانا۔ تَزَحْلَقَ: پھسلنا، رپٹنا۔ ميدان الزحْلَقة: سکیٹنگ کا فرش۔

زحم: ۱۔ زَحَمَ - زَحْماً و زِحَاماً هُ: کو تنگ کرنا یا اس سے سختی کا برتاؤ کرنا۔ اسے تنگ جگہ میں دھکیلنا۔ زاحم هُ: کو تنگ کرنا۔ و۔ الخمسينَ: (کا) پچاس کے قریب ہونا، پچاس کے پیٹے میں ہونا۔ تَزَاحَم و اِزْدَحَم القوم: ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کو دھکیلنا۔ و۔ تِ الامواجُ: موجوں کا ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ الزَحْم: (مص): لوگوں کی بھیڑ۔ الزَحْمَة: بھیڑ۔ الزحام: مصدر۔ يوم الزِحام: قیامت کا دن۔ المِزْحَم: بہت بھیڑ کرنے والا۔

۲۔ زَحْمَرَ القِرْبَةَ: مشک بھرنا، مشکیزہ بھرنا۔

○ زَحَمَ - زَحْمًا هُ: کو دھکیلنا، کہنیاں مار کر آگے بڑھانا، دھکا دینا، پر ٹوٹ پڑنا، ہجوم کرنا، زَاحَمَ هُ: ایضاً۔ هُ: کے مقابلہ میں حصہ لینا، کا مقابلہ کرنا۔ تَزَاحم: باہم ہجوم کرنا۔ في: میں کھچا کھچ بھرے ہونا۔ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ اِزْدَحَمَ ب: سے بھرے ہونا۔ لوگوں کا ہجوم کرنا۔ زَحْمة: ہجوم، بھنچا ہوا ہجوم۔ زِحام: ایضاً۔ مُزَاحَمة جمع مُزَاحمات: مقابلہ، رقابت۔ لايقبل المزاحمة: بلا مقابلہ، بے نظیر۔ تَزَاحُم: (باہمی) مقابلہ۔ ازدحام: بھیڑ، ہجوم۔ مُزَاحِم: مقابلہ کرنے والا، رقیب۔ مُزْدَحِم: بہت بھیڑ والا۔ ب: سے لبالب یا کھچا کچھ بھرا ہوا۔ مُزْدَحَم: بھیڑ، ہجوم، بھنچا ہوا ہجوم۔

زحن: ۱۔ زَحَنَ - زَحْنًا: دیر لگانا۔ تزَحَّنَ: دیر لگانا۔ و۔ على الشيء وعنه: (کو) ناپسندیدگی سے کرنا۔ الزَحْنَة: قافلہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ سخت گرمی۔ کہتے ہیں۔ لَهُمْ زَحْنَةٌ: ان کے لئے دیر کا کام ہے اور۔ له زَحْنَةٌ بَعْدُ: جب کوئی سفر پر جا رہا ہو تو کسی کام کو موخر کر دے۔

۲۔ تَزَحَّنَ: سکڑ جانا۔ رجلٌ زُحَنٌ م زُحَنَة: پست قد توند والا۔

۳۔ زحَنَ - زَحْنًا هُ عن المكان: کو جگہ سے دور کرنا۔ تزَحَّنَ عن مكانه: سے حرکت کرنا۔

۴۔ الزُحْنَة: وادی کا موڑ۔

زَخّ: ۱۔ زَخَّ - زَخّاً بالابِل: اونٹوں کو تیز چلانا۔ و۔ هُ: کو ہٹانا دور کرنا، کو گڑھے میں گرانا۔ و۔ ۔ زَخّا و زَخِيخًا الجمرُ: چنگاری کا تیز چمکنا۔ زَخَّ المطرُ: بارش کا تیز ہونا۔ [illegible]

الزَخّة والمَزَخَّة والمِزَخّة: بیوی، بارش کا سخت ریلا۔

۲۔ زَخّ - زَخًّا: غضبناک ہونا۔ الزَخّ: (مص) کینہ، غصہ۔ الزَخَة: کینہ، غصہ۔

○ زَخّة جمع زَخَّات: موسلا دھار بارش، سخت بوچھاڑ۔

زخر: زَخَرَ - زَخْراً و زُخُوراً و تَزْخاراً البحرُ: دریا کا طغیانی میں آنا، بھر جانا۔ و۔ الوادی: وادی کا پانی سے بھرا ہونا۔ و۔ النباتُ: نباتات کا لمبا اور اونچا ہونا۔ و۔ القومُ: جنگ یا روانگی جنگ کے لئے قوم کا جوش میں آنا۔ و۔ تِ الحربُ او القِدْرُ: لڑائی یا ہانڈی کا جوش مارنا۔ و۔ هُ: (کو) بھرنا، موٹا کرنا، آراستہ کرنا۔ تزَخَّر البحرُ او الوادی: دریا یا وادی کا طغیانی میں آنا۔ الزاخِر (فا): کریم، فیاض، بھرا ہوا، چھلکنے والا۔ من الشرف: خاندانی شرافت کا حامل۔ رواخر الوادی: وادی کی گھاس۔ الزَخّار: زخر کا اسم مبالغہ: شدید طغیانی والا۔ الزُخْرِيّ: طویل۔ نباتٌ زَخُورٌ و زَخْوَرِی: لمبا گنجان پودا۔ نباتٌ زخَارِی: لمبا گنجان پودا۔ زُخَارِيُّ النبات: نباتات کی گھنا ہونے اور شگوفے دار ہونے پر تر و تازگی۔ کہتے ہیں۔ قد اخذت الارض زُخارِيَّها: زمین کی نباتات اونچی ہو گئی۔

۲۔ زَخَر - زَخْراً و زُخوراً و تزْخَاراً بماعنده: پر فخر کرنا۔ زَاخَرَهُ: فخر میں دوسرے پر غالب آنا۔ کہتے ہیں۔ زاخره فزخره: اس نے اس سے فخر میں مقابلہ کیا تو وہ اس پر فخر کرنے میں غالب آ گیا۔ تَزَخْوَرَ بما عِنده: پر فخر کرنا۔ کلامٌ زَخْوَرِیّ: وہ کلام جس میں متکبرانہ تہدید سے بھری ہوئی گفتگو کی جائے۔

۳۔ زَخَرَ - زَخْراً و زخوراً و تَزْخَاراً هُ: (کو) خوش کرنا، خوشی پر برانگیختہ کرنا۔ الزَاخِر (فا): خوش۔ زَخْرَفَ هُ: (کو) خوبصورت بنانا، آراستہ و پیراستہ کرنا۔ و۔ الكلامَ: کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ تَزَخْرَفَ الرجلُ: (کا) زیب و زینت کرنا، سجنا، اپنے آپ کو سجانا، بننا ٹھننا۔ الزُخْرُف جمع زخارف: سونا (دھات) چیز کی خوبصورتی۔ زُخْرُفُ الكلامِ: جھوٹ سے سجا ہوا کلام۔ و۔ الارضِ: زمین کی سبزیوں کے رنگ۔ الزخافِ: کشتیاں، پانی پر اڑنے والے پتنگے، جیسے مکھی۔ زخارفُ الماء: پانی کے راستے۔

○ زَخَرَ - زُخُوراً ب: سے لبالب ہونا، سے بھرا ہونا، کی ڈینگ مارنا، کی بڑ ہانکنا۔ تَزَخَّر: بلند ہونا، نکلنا۔ ب: سے بھرپور ہونا، کی بہتات، کثرت یا افراط ہونا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زَاخِر و زَخّار: بھرا ہوا، لبالب بھرا ہوا، پانی سے بھرپور (سمندر)۔ بہت زیادہ، بہت کثیر، وافر، زندہ دلانہ (احساس)۔

زخف: ا۔ زَخَفَ - زَخْفاً و زَخِيفاً: تکبر کرنا۔ زَخَّفَ فی القول: بہت بولنا۔ تَزَخَّفَ: بنا ٹھنا۔ الْمِزْخَف: متکبر، فخر کرنے والا۔

○ زَخَارِفُ لفظية: صنائع بدائع، زخارف الدُنيَا: جھوٹی شان۔ مُزَخْرَف: سجایا ہوا، سج دھج والا، زیبائش کیا ہوا، خوبصورت یا خوشنما بنایا ہوا۔ مُزَخْرِف: خانہ آرا۔

زخم: ا۔ زَخَمَ - زَخْماً هُ: (کو) سختی سے دھکیلنا۔ اِزْدَخَمَ الحِملَ: بوجھ اٹھانا۔ الزِخْم: طاقت اور سختی، قوت وشدت۔ الزّخِيم: سخت ضرب لگانے والا مضبوط اور طاقت ور شخص۔

۲۔ زَخِمَ - زَخَمًا و اَزْخَمَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا ایسا گوشت۔ زَخِم کہلاتا ہے۔ الزَخَمَة: گوشت کا خراب اور بدبودار ہونا۔ الزَخْمَاء: بدبودار عورت۔ الزخيم من الروائح: تیز بدبو۔

زدب: الزِدْب جمع اَزْداب: حصہ (نصیب)

زدر: ا۔ زَدَرَ و اَزْدَرَ: صدر واصدر کے معنی میں یعنی لوٹنا اور لوٹانا۔ الاَزْدَران: دونوں شانے۔ کہتے ہیں۔ جاء يضرب اَزْدَرَيْه: وہ خالی ہاتھ آیا۔ اِزْدَرَمَ: نگلنا۔

زدف: اَزْدَفَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔

زدا: زَدَا - زَدْواً الصبیُ الجوزو بالجوز: بچے کا اخروٹ کو گڑھے میں پھینک کر کھیلنا۔ اَزْدی اِزْداءً: احسان کرنا، بھلائی کرنا۔ المِزداة او المزداء: بچوں کا وہ چھوٹا گڑھا جس میں وہ اخروٹ پھینک کر کھیلتے ہیں۔

زرّ: زَرَّ - زَرًّا القميصَ: قمیض کے بٹن بند کرنا۔ و۔ الشیءَ: (کو) جمع کر کے باندھنا۔ و۔ عینهُ: آنکھ بھینچنا۔ تنگ کرنا۔ و۔ هُ: و۔ زَرّاً الرجلُ: گھنڈی لگانا۔ زَرَّرَ ثوبَهُ: کپڑے کو بٹن لگانا یا بٹن بنانا۔ اَزَرَّ القميصَ: قمیض کو بٹن لگانا۔ تَزَرَّرَ القميصُ: قمیص کا بٹن دار ہونا، کے بٹن بند ہونا۔ الزِرّ جمع اَزْرار و زُرُور: بٹن، گھنڈی، خیمہ کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی۔ (ع ا) گردن کے پچھلے حصہ کا گڑھا۔ دل کے نیچے کی چھوٹی ہڈی، گڑھا، جس میں بازو یاران کی ہڈی گھومتی ہے، کونپل، کلی، شگوفہ۔ زِرُّ الشیءِ: ستون وہ شے جس سے اس کا قیام ہو۔ هو زِرُّ مالٍ: وہ مال کی بہتری کے طریقے سے واقف ہے۔ جاءَ فلانٌ بِزِرِّہ: وہ خود آیا۔ و اعطاهُ الشیءَ بزِرِّه: اس نے اس کو پوری چیز دی۔ الزُرارَة: وہ چیز جو پھینکنے پر دیوار سے چمٹ جائے۔

۲۔ زَرّ - زَرًّا المتاعَ: سامان جھاڑنا۔ و۔ الشَعَرَ: بال اکھیڑنا، نوچنا۔ و۔ الرجلَ: (کو) دھتکارنا۔

۳۔ زَرَّ - زَرًّا الرجلَ: (کو) دانت سے کاٹنا یا پکڑنا۔ زَرّہ بالرمح: کو نیزہ سے مارنا۔ زَرًّا الرجلُ: کا اپنے مخالف پر سختی کرنا۔ زِرُّ السيفِ: تلوار کی دھار۔ الزَرَّة: کاٹنا، تلوار کا زخم۔ الزِرَّة: کاٹنے کا نشان۔ حمار مِزَرّ: کاٹنے والا گدھا۔ الزَارَّة (ح) اونٹ اور گدھے وغیرہ پر بیٹھنے والی مکھی۔

۴۔ زَرَّ - زَرًّا الرجلُ: آدمی کی عقل اور تجربات میں اضافہ ہونا۔ الزِرَّة: عقل۔

۵۔ زَرّ - زَرِير اسنان الرمح: نیزے کے پھل کا چمکنا۔ و۔ تِ العينُ: آنکھ کا چمکنا۔ الزُرّار والزِرِير: سریع الفہم، تیز خاطر۔

۶۔ زَرْزَرَ الزُرْزُور: زرزور پرندے کا آواز نکالنا۔ و۔ الرجلُ: (کا) ہمیشہ زرزور پرندہ کھانا۔ بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ الزُرْزُور و الزُرزُر جمع زَرَازِير و زَرَازِر: (ح) گرسل چڑیا سے بڑا ایک پرندہ، ایک قسم کا رنگ کالا ہوتا ہے، دوسری چتکبری ہوتی ہے یعنی سیاہ سفید نقطوں والی۔ الزُرْزُورِيّ: جس کا رنگ زرزور کا سا ہو۔

۷۔ تَزَرْزَرَ: گرسل کا حرکت کرنا۔ الزَرْزَار جمع زَرَازِرَة والزُرَازِر: سریع الخاطر، ذکی (فارسی لفظ)

○ زِرّ جمع ازرار و زُرُور: بٹن، پش بٹن، (دروازے وغیرہ کا) دستہ، لٹو، موٹھ، کونپل، کلی، شگوفہ، ٹوپی کا پھندنا یا بھالہ۔

زرأ: اِزْرَأَمَّ اِزْرِئْمَاماً واِزْرَأَمّ اِزْرِيْمَاماً كلامُهُ اور دمُهُ او بولُهُ: کی گفتگو، یا خون یا پیشاب کا بند ہونا یا رکنا۔

زرب: زَرَبَ - زَرْباً المواشيَ: مویشیوں کو باڑہ میں بند کرنا۔ و۔ للغنم: بکریوں کے لئے باڑہ بنانا۔ اِنْزَرَبَ: باڑہ میں داخل ہونا۔ الزَرْبُ (مص): داخل ہونے کی جگہ شکاری کے گھات کی جگہ۔ و۔ والزِرْب جمع زُروب: مویشیوں کا باڑہ۔ الزاروب: عوام لمبی تنگ گلی کو کہتے ہیں، اس کے لئے فصیح لفظ الزقب ہے۔ الزَرِيبَة: جمع زِراب وزَرائِب: مویشیوں کا باڑہ شیر کی کچھار۔ شکاری کی گھات لگانے کی جگہ۔

۲۔ اِزْرَبَّ النباتُ: پودے کا زرد ہونا۔ سبزی مائل سرخ ہونا۔ الزُرْبِی جمع زَرَابِی: مسند اور گدی تکیہ۔ و۔ من النبت: زرد یا سبزی مائل، سرخ پودا۔ الزَرْبِيَّة جمع زَرَابِيّ: مسند، تکیہ، جی حضوری لوگ۔ و۔ من النبت: زرد یا سبزی مائل پودا۔

۳۔ زَرِبَ - زَرْباً الماءُ: پانی کا بہنا۔ الزِرْب: پانی بہنے کی جگہ۔ المِزْراب جمع مَزَارِيب: پرنالہ۔

○ زُرْبِيه و زِربية جمع زَرَابِی: قالین، غالیچہ، نمدہ، موٹا کمبل، زَرِيّبة جمع زَرَائِب: درخت کی شاخوں سے بنایا ہوا جھونپڑا، مویشی کا باڑہ

○ زربول جمع زَرَابِيل و زربُون جمع زرابين: جوتے کی ایک قسم۔

○ زَرَدَ - زَرْدَاہ: کا گلا دبانا، گلا گھونٹنا، ٹیٹوا دبانا۔ (کچھ) نگلنا، ہڑپ کرنا، بے تحاشا کھانا۔ اِزْدَرَدَ ہ: کچھ نگلنا۔ زَرْدَة: زردہ۔ زَرَد جمع زُرُود: زرہ بکتر۔ حِمارُ الزَرَد: زیبرا۔ زَرْدِية: پلاس (Pliers)۔ مَزْرَد: گلا، حلقوم، نرخرا۔

○ زَرْزَرَ: چہچہانا، چوں چوں کرنا، چیں چیں کرنا۔ زُرْزُور و زُرْزُر جمع زَرَازِير: شارک، گرسل۔ زُرْزُورِی: سینہ داغوں والا خاکستری رنگ کا (گھوڑا)

زرج: ا۔ المُزَرَّج: شراب سے بدمست، متوالا۔

۲۔ زَرْجَنَ هُ: کو بیوقوف بنانا، دھوکا دینا۔ و۔ القومُ: کا آپس میں جائیداد تقسیم کرنا۔ الزَرَجُون واحد زَرَجُونَة: انگور کی بیلیں، سرخ رنگ، شراب۔

زرح: زَرِحَ - زَرَحًا: ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جانا۔ الزَارِح (فا) جمع زُرَّاح: چست وچالاک۔ الزَرْوَح و الزَرْوَحَة جمع زَرَاوِح: چھوٹا ٹیلہ۔ المَزْرِح: پست زمین۔

زرد: ا۔ زَرَدَ - زَرْداً هُ: کا گلا گھونٹنا۔ زرد عينه علی صاحبه: وہ اپنے ساتھی پر غضب ناک ہوا اور اس کے ساتھ ترش روئی سے پیش آیا۔ زَرِدَ - زَرَداً و تَزَرَّدَ و اِزْدَرَدَ اللُقْمَةَ: لقمہ تیزی سے نگلنا۔ تَزَرَّدَ اليمينَ: اس نے گناہ سے نڈر کر فوراً قسم کھالی۔ الزَرِد: جلدی نگلنے والا۔ الزُرْدَة: لقمہ۔ الزِراد والمِزْرَد: اونٹ کا گلا گھونٹنے کی رسی۔ الزَرَّاد: گلا گھونٹنے کی عادت والا۔ المَزْرَد: حلق، کھانا نگلنے کی نالی۔ المُزْدَرَد (مفع) کہا جاتا ہے۔ اَخَذَهُ بمُزْدَرَدِہ: اس نے اس کو بہت تنگ کیا۔

۲۔ زَرَدَ - زَرْداً الدرعَ: زرہ بننا۔ العقدةَ: اتنی سخت گرہ لگانا جو کھل نہ سکے۔ الزَرَد جمع زُرُود: زرہ (جالی دار بنی ہوئی) حِمارُ الزَرَد (ح) گورخر۔ الزَرَّاد: زرہ بنانے والا۔ الزِرادة: زرہ سازی کا پیشہ۔

۳۔ زَرْدَبَ و زَرْدَمَ هُ: کا گلا گھونٹنا۔ الطعامَ: کھانا نگلنا۔ الزَرْدَمَة: نگلنے کی جگہ، ہوا کی نالی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

زَرَط ۔ زَرْطاً اللُّقمةَ: لقمہ نگلنا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ "زلط"۔

زرع: ا۔زَرَعَ - زَرْعًا: زمین میں بیج بونا۔ و۔ الارضَ: زمین میں بیج ڈالنا، زمین جوتنا۔ اَللّٰهُ النباتَ: اللہ کا پودا اگانا اور بڑھانا۔ زُرِعَ له بعد شقاوة: اس نے محتاجی اور غربت کے بعد دولت اور خوشی پائی۔ زَارَعَ مُزَارَعَةً: بونا۔ زَارَعَ فلانا: بیج دے کر کسی کو بٹائی پر کھیت دینا۔ اَزْرَعَ الـزَّرْعُ: کھیتی کا پتے نکالنا، فصل کا ثنا۔ القومُ: کھیتی باڑی کرنے پر قادر ہونا۔ اِزْدَرَعَ الرجلُ و اِزْدَرَعَ الارضَ: زمین جوتنا اس میں بیج بونا۔ الزارع جمع زارعون وزُرَّاع (فا): کسان۔ بیج بونے والا، کاشتکار، بڑے باغات والا۔ الـزَّرْعُ: (مص) جمع زُرُوع: کھیتی، اولاد۔ الـزَّرْعَة: بیج۔ والزَّرْعَة و الزِّرْعَة و الزُّرْعَة: قابلِ کاشت زمین کہتے ہیں ما في هذه الارض زرعة: اس زمین میں کوئی جگہ قابل کاشت نہیں ہے۔ الزِّرَاعَة: کاشتکاری کھیتی باڑی، زراعت کا پیشہ۔ الزَّرَّاع جمع زَرَّاعون و زَرَّاعة: کسان، کاشتکار، چغل خور کیونکہ وہ دلوں میں کینہ کا بیج بوتا ہے۔ الزَّرَّاعَةُ جمع زَرَّاعات: زراع کا مونث، کاشتکار عورت کسان عورت، کھیتی، کشت زار۔ الزريع: صرف بارانی کھیت۔ الزَّرِيعَة: بوئی ہوئی چیز، کاشت شدہ زمین۔ الزَّرِّيع: وہ نباتات جو کھیت کی کٹائی کے بعد گرے ہوئے بیجوں سے اُگ آئے۔ المَزْرَعَة و المزْرُعة جمع مَزَارِع: کھیت، درختوں والا رقبہ، باغات، زمینداری، ریاست، تعلقہ۔ المُزْدَرَع: کھیت۔

۲۔ تَزَرَّعَ إلى الشرّ: برائی کی طرف تیزی کرنا، برائی کی طرف مائل ہونا۔

۳۔ الـزارع: (ح) ایک کتے کا نام، اس لئے کتوں کو اولاد زارع کہتے ہیں۔

○ زَرْع: بونا، بیج بونا جمع زُرُوع: بیج، سبز کھڑی فصل، کھیت، باغات۔ الـزَّرْع والـضـرع: کھیتی باڑی، مویشی پالنا۔ زِرَاعَة: کاشتکاری، کھیتی باڑی، کاشت، فصل اگانا۔ زراعة البساتين: باغبانی۔ زِرَاعي: زرعی، زراعتی۔ ارض زراعية: قابل کاشت زمین۔ طریق زراعي: کچا راستہ، پگڈنڈی۔ ذرية: بویا یا پودا لگایا ہوا۔ فصل زَرَّاع جمع زَرَّاعة و زرّاعون: کسان کاشتکار، باغات والا۔ مَزْرَع: (قابل کاشت) زمین۔ مَزْرَعَة جمع مَزَارِع: زیر کاشت زمین، کھیت، کھیتی، فارم، درختوں والا رقبہ، باغات، دیہاتی جائیداد۔ مَزْرَعاني: کاشتکار، کسان۔ مُزَارَعَة: بٹائی پر دینے کا عارضی معاہدہ۔ زارِع جمع زُرَّاع: بیج بیچنے والا، بونے والا، کسان، کاشتکار، باغات والا۔ مَزْرُوع: کاشت شدہ، پودے لگایا ہوا۔ مَزْرُوعَة جمع مَزْرُوعات: ہری فصل، نئی کھڑی فصل۔ مُزَارِع جمع مُزَارِعون: کاشتکار۔

زرف: ا۔ زَرَفَ - زُرُوفاً و زَرِيفاً اليه: کے قریب ہونا، کی طرف جلدی کرنا، دیر کرنا (ضد) زَرَّفَ الرمحَ فيه: میں نیزہ بھونکنا۔ اَزْرَفَ: آگے بڑھنا، جلدی کرنا، (ہزیمت وغیرہ میں)۔ الناقة: اونٹنی کو تیز چلانا۔ انـزرف القومُ: قوم کا گھاس اور پانی کی تلاش میں جانا۔ و۔ تِ الـريـحُ: ہوا کا گزرنا۔ و۔ الشيءُ: چیز کا گھس جانا۔ آر پار ہوجانا۔ الـزَّرُوف والـزَّرُوف والمِزْرَاف من النوق: تیز رفتار اونٹنی۔

۲۔ زَرَفَ - زَرْفاً: کودنا۔ و۔ في الكلام: گفتگو میں اضافہ کرنا اور جھوٹ بولنا۔ زَرَّفَ الشيءَ: میں اضافہ کرنا۔ و۔ في الكلام: گفتگو میں زیادہ باتیں بنانا اور جھوٹ بولنا کہتے ہیں۔ زَرَّفَ في السنين: عمر رسید ہونا۔ الزُّرافة: بہت جھوٹا۔

۳۔ زَرِفَ - زَرَفاً الجرحُ: زخم کا اچھا ہوجانے کے بعد پھر ہرا ہوجانا۔ ازرف الجرحُ: زخم کا اچھا ہوجانے کے بعد پھر ہرا ہوجانا۔ الزَّرَّافة و الزرافة جمع زَرَّافات وزرافـات: وہ جگہ جہاں کھیت کے لئے پانی نکالا جائے۔

۴۔ زَرَّفَهُ: کو علیحدہ کرنا دور کرنا۔ زَرَّفَ القومَ: قوم کو فرقے فرقے کردینا۔ الـزرافة والـزَّرَّافة جمع زرافـات: دس بیس افراد کا گروہ۔ طـاروا اليه زرافـاتٍ و وحدانا: وہ اس کی طرف گروہوں کی شکل میں اور اکیلے اکیلے دوڑے۔

۵۔ اَزْرَفَ الرجلُ: زرافہ خریدنا۔ الزُّرَافة و الزَّرَافة والـزَّرَّافة والـزُّرَّافة جمع زَرَافِيّ وزُرَافَى وزَرَائِف (ح) زرافہ انگریزی میں اسے Giraffe کہتے ہیں۔

۶۔ زَرْفَنَ شَعْرَهُ: بالوں کو حلقہ دار بنانا۔ الزَّرَافين واحد زُرْفِين: حلقہ۔

زرق: ا۔ زَرَقَ - زُرُوقاً الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ الزَّرَّاقَة: عوام اسے زاروقہ کہتے ہیں، پچکاری۔

۲۔ زَرَقَ - زُرْقاً الطائرَ: پرندے کو چھوٹے نیزے سے مارنا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ زرق النجمُ: ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ انزرق السهمُ: تیر کا گھسنا اور آر پار ہونا۔ المِزْرَاق جمع مزاريق: چھوٹا نیزہ۔

۳۔ زَرَقَ - زَرْقاً [illegible] عينه نحوي: [illegible] تنکھیوں سے دیکھا۔ الرجلَ ببصره: (کو) گھورنا۔ زَرِقَ - زَرَقاً الرجلُ: اندھا ہونا۔ اَزْرَقَتْ عينه نحوي: اس نے میری طرف تنکھیوں سے دیکھا۔ اِزْرَقَّ اِزْرِقَاقاً و ازْرَاقَّ اِزْرِيقَاقاً عينه نحوي: اس نے میری طرف تنکھیوں سے دیکھا۔ اَلزَّرَق: گھوڑے کا سفید ٹانگوں والا ہونا۔ الزُّرَق: تیز نظر والا، گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ و۔ جمع زَرَارِق (ح) ایک شکاری پرندہ۔ الأزْرَق: (ح) باز۔ زرقاء اليمامة: فاختہ۔

۴۔ زَرَقَ - زُرُوقاً تِ الناقةُ الرَّحْلَ: اونٹنی کا کجاوے کو پیچھے کی طرف ہٹانا۔ اَزْرَقَتِ الناقة حملها: اونٹنی کا بوجھ کو پیچھے کی طرف ہٹانا۔ اِنْـزَرَقَ: پیچھے ہٹنا، چت لیٹنا۔ المِزْرَاق جمع مَزَارِيق من الاباعر: پیچھے کی طرف بوجھ ہٹانے والا اونٹ۔

۵۔ زَرِقَ - زَرَقَتْ عينُهُ: کی آنکھ کا نیلا ہونا۔ الشيءُ: چیز کا نیلگوں ہونا۔ اِزْرَقَّ اِزْرِقَاقاً و ازرَاقّ ازريقاقاً: نیلا یا آسمانی رنگ کا ہونا۔ الزَّرَق و الزُّرْقَة: نیلا رنگ، آسمانی رنگ۔ الـزَّرْقَة: تعویذ کا مہرہ۔ الـزُّرَيْق و ابو زُرَيْق: نیل کنٹھ۔ الأَزْرَق م زَرْقَاء جمع زُرْق: نیلگوں۔ عَدُوٌّ اَزْرَق: سخت دشمنی والا دشمن۔ نـصلٌ اَزْرَق: چمکتا ہوا تیر کا پھل۔ مـاءٌ ازرق: صاف پانی۔ الزُّرْق: دانتوں اور نیزے وغیرہ کے پھلوں سے کنایہ۔ الأزارِقَة: جن کا واحد الأزرقـي ہے نافع بن الازرق کے ساتھیوں پر مشتمل خوارج کا ایک فرقہ، جنہوں نے مخالفوں کو قتل اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا جائز قرار دیا۔ الزَّرْقَاء جمع زُرْق: ازرق کا مونث۔ آسمان، شراب۔ الـزُّرَيْـقـاء (ح) بلی سے مشابہ جانور لیکن اس کی ٹانگیں چھوٹی اور جسم بلی سے لمبا ہوتا ہے دودھ اور تیل میں بھگویا ہوا کھانا۔

۶۔ الـزُّرْقُم جمع زَرَاقِم: گہرا آسمانی (مذکر اور مونث دونوں کے لئے آتا ہے) الـزَّرَاقِم (ح) بہت سے سانپ۔

○ زَرَقَ - زُرْقاً ه ب: کو چوٹ لگانا، کو سے چیرنا۔ ھ: کچھ پھینکنا۔ زرق الابر: ٹیکے۔ مِزْرَاق جمع مَزَارِيق: کھیل کا نیزہ۔ زرق۔ زَرَقاً و اِزْرَقَّ: نیلا ہونا۔ زَرَق: نیلا، نیلاہٹ، نیلا رنگ سبز موتیا Glaucoma۔ زُرْقَة: نیلا، نیلاہٹ، نیلا رنگ، سیاہ یرقان Cyanosis۔ اَزْرَق م زَرْقَاء جمع زُرْق: نیلا۔ الـزَّرْقَاء: نیلا آسمان۔ اِزْرِقَاق: نیلا، نیلاہٹ۔ داء الازرق: سیاہ یرقان Cyanosis زرقون: چمکدار نیلا۔

maarfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زرك : زَرِكَ - زَرَكاً : بدخلق ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ زَرِكَهُ: یعنی اسے تنگ کیا۔

ف زَرْكَش : زرلعت، کم خواب، دیبا، نقرئی وزرین سوزن کاری۔ مُزَرْكَش : زربفت، ــ ب : نقرئی، وزرین دھاگے سے سوزن کاری کیا ہوا۔

زرم : ۱۔ زَرَمَ - زَرْماً هُ : کو کاٹنا کہتے ہیں۔ زَرَمَتْ به اُمّهُ. اس کو اسکی ماں نے جنا۔ زَرِمَ - زَرْماً الشیءُ : چیز کا منقطع ہونا۔ زَرَّمَ و اَزْرَمَ ہ : (کو) کاٹنا کہا جاتا ہے۔ زَرَّمَهُ الدهرُ : زمانہ نے اس کی خیر کا سلسلہ منقطع کردیا۔ الازرَم: منقطع (ح) بلی۔ الزَرِم : ذلیل، تھوڑے جتھے والا، کنجوس، تنگ حال۔ الزَرِیم : ذلیل، تھوڑے جتھے والا۔

۲۔ اِزرَأمّ : سکڑنا، غضبناک ہونا۔

۳۔ اِزْدَرَمَهُ : (کو) نگلنا۔

زرن : ۱۔ الزَرْنَب : (ح) نیل گائے۔

۲۔ الزِرْنیخ (ك) : ہڑتال۔ سنکھیا، سم الفار۔

۳۔ زَرْنَقَ زَرْنَقَةً فُلاناً اللباسَ : (کو) لباس پہنانا۔ تَزَرْنَقَ بِالثیاب : لباس پہننا اور اس سے اپنے آپ کو ڈھکنا۔

۴۔ زَرْنَقَ زَرْنَقَةً الارضَ : زمین کو کھال سے سیراب کرنا، عام لوگ کہتے ہیں۔ زرنق : اس نے لوٹے سے پانی پیا مگر اچھی طرح نہیں چوسا۔ تَزَرْنَقَ الرجلُ : آدمی کا اجرت دیکر پانی کی نالی کے ذریعے پانی مانگنا۔ الزُرْنُوق : چھوٹی نہر، کھال، پانی کی نالی۔

۵۔ تَزَرْنَقَ : سود پر خریدنا۔ الزَرْنقة : سود، زیادتی۔

۶۔ الزَرْنَقَة : حسن کامل۔ الزِرْنیق (ك) : ہڑتال۔

زری : زَرَی - زَرْياً و زُرْياً و زَرَايَةً و مَزْرِيَةً و مَزَارَةً و تَزَرّی علیه عملَه : کسی کو کسی کام پر عتاب کرنا، عیب لگانا۔ زَارَی مُزَارَةً هُ : کو عتاب کرنا۔ أَزْرَی بالامرِ : کسی امر میں سستی کرنا۔ و۔ به و أَزْرَاهُ : (کی) بدگوئی کرنا اور اس کا حق کم کرنا۔ ــ علیه عملَه : کو اس کے کام پر معتوب کرنا۔ کو اس کے کام پر عیب لگانا۔ اِزْدَرَی و اِستَزْرَی هُ : کو حقیر جاننا (کا) استخفاف کرنا۔ الزَرِيّ : برا اور حقیر شخص جسے کسی شمار میں نہ لایا جائے۔ المِزْرَاء : لوگوں کو حقیر جاننے والا، لوگوں کا عیب گیر۔

ف زَرَی - زِرَايَةً علی : کو جھاڑ، جھپاڑ کرنا۔ ــ علی ہ : کی کسی وجہ سے عیب جوئی کرنا۔ ــ علی / ب : کا گالیاں دینا، اَزْرَی ب : کا مذاق اڑانا۔ تَزَرّی بمعنی زَرَی۔ اِزْدَرَی ہ / ــ / ب : کی ہتک کرنا، کے متعلق بری رائے رکھنا، کو حقیر جاننا۔ ــ ــ / ب : خطرہ کو خاطر میں نہ لانا۔

استزری بمعنی اِزْدَرَی۔ زَرِيّ : برا، بہت خراب، حقارت، مہمیز، قابل مذمت ذلت، ہتک، حقارت، تحقیر، بدنامی، ناقدری۔ اِزْرَاء : ذلت، ہتک، بے التفاتی، بے پروائی۔ اِزْدِرَاء : ذلت، ہتک، حقارت، تحقیر۔ مُزْرِی : حقارت آمیز، قابل مذمت، لائق مذمت۔

زطّ : زَطَّ - زَطّاً الذبابُ : مکھی کا بھنبھنانا۔

زعّ : زعزع زَعْزَعَةً هُ : کو زور سے ہلانا۔ و۔ الابلَ فی السیر : اونٹ کو ہانکنا۔ تَزَعْزَعَ : حرکت میں آنا، ہلنا۔ الزَعْزَعَة جمع زَعَازِع (مص) الزَعَازِع : مصائب زمانہ۔ ریحٌ زَعْزَع و زُعْزُعٌ و زَعْزَاعٌ و زُعَازِعٌ و زَعْزَعَانٌ : آندھی، طوفان باد۔ جَرْیٌ زَعْزَع : تیز دوڑ۔

زعب : ۱۔ زَعَبَ - زَعْباً الاناءَ : برتن کو بھرنا۔ و۔ القِربةَ : بھری ہوئی مشک اٹھانا۔ و۔ تِ القِربةُ : مشک کا اپنا پانی نکال دینا۔ و۔ السیلُ : سیلاب کا وادی کو بھر دینا اور پانی کا زور ہونا۔ و۔ الوادی : وادی کا بھر جانا۔ تَزَعَّبَ فی اکله و شربه : زیادہ کھانا اور پینا۔ سیلٌ زَاعِب و زَعُوبٌ : سیلاب جو وادی کو بھر دے۔

۲۔ زَعَبَ - زَعْباً الشیءَ : چیز کو کاٹنا۔ و۔ زِعْباً و زَعْبَةً و زُعْبَةً له من المال : کو مال کا ایک حصہ دینا۔ تَزَعَّبَ القومُ المال : لوگوں کا مال کو آپس میں بانٹنا۔ اِزْدَعَبَ الشیءَ : چیز کو اپنے لئے لینا۔ الزَعْبَة والزُعْبَةُ والزِعْب : مال کا ایک حصہ۔

۳۔ زَعَبَ - زَعِيباً الغرابُ : کوے کا تھک کر کائیں کائیں کرنا۔

۴۔ تَزَعَّبَ : غیظ و غضب میں آنا۔ ۵۔ تَزَعَّبَ : چست ہونا۔

۶۔ الاَزْعَبُ م زَعْبَاء جمع زُعْب : موٹا کمینہ پستہ قد۔ الزُعْبُوب : پستہ قد کمینہ شخص۔

۷۔ زَعْبَقَ القومَ : لوگوں کو متفرق کرنا۔ و۔ الشیءَ : چیز کو جدا جدا کرنا، بکھیرنا۔ تَزَعْبَقَ الشیءُ من یدی : چیز میرے ہاتھ سے بکھر گئی۔ متفرق ہوگئی۔

۸۔ زَعْبَلَ : موٹے بدن اور پتلی گردن والا ہونا۔ الزَعْبَل جمع زَعَابِل : موٹے جسم اور پتلی گردن والا۔ (ح) اژدہا، ڈول (ح) گرگٹ۔

○ زَعْبَرَ علی : کو دھوکا دینا، سے دغا بازی کرنا۔

○ زُعْبُوط جمع زَعَابِيط : اونی کپڑا، اونی لباس جو فلاحین پہنتے ہیں۔

○ زَعْتَر بمعنی سعتر

زعج : ۱۔ زَعَجَ - زَعْجاً هُ : (کو) بے قرار کرنا اور اپنی جگہ سے ہٹا دینا، دھتکارنا، نکال باہر کرنا۔ اَزْعَجَهُ : کو بے قرار کرنا، پریشان کرنا۔ و۔ هُ الی المعصیة : (کو) گناہ کی طرف لے جانا۔ اِنْزَعَجَ : بے قرار ہونا، بے چین ہونا، ہٹنا۔ الزَعَج : بے قراری، بے چینی، بے آرامی۔ المِزْعَاج : ایک جگہ نہ ٹھہرنے والی عورت۔

۲۔ زَعَجَ - زَعْجاً الرجلُ : (کا) چلانا۔

○ زَعَّجَ و اَزْعَجَ ہ : کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، کو جان بوجھ کر چھیڑنا، دق کرنا، تنگ کرنا، بے چین کرنا۔ ــ ہ عن / من : کو کسی جگہ سے ہلانا، نیند وغیرہ سے جگانا، کو کسی جگہ سے لے جانا۔ اِنْزَعَجَ : جوش میں آنا، برانگیختہ ہونا۔ ــ من : سے دہشت زدہ ہونا، خوف زدہ ہونا، کے بارے میں بے چینی محسوس کرنا۔ زَعُوج : گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی۔ اِزْعَاج : ہلچل، گڑبڑ۔ اِنْزِعَاج : تکلیف، بے کلی، بے چینی، بے آرامی، الجھن، پریشانی، ہلچل، گڑبڑ۔ مُزْعِج : برہم کن، تکلیف دہ، ناگوار، ناخوش گوار، تنگ کرنے والا، پریشان کن، تشویش ناک، مبزِعجات : پریشانیاں، تکالیف، مصائب، بے کلیاں۔

زعر : ۱۔ زَعِرَ - زَعَراً و اِزْعَرَّ و اِزْعَارَّ شعرُهُ اوریشُهُ : (کے) بالوں یا پروں کا کم ہونا اور بکھرا ہوا ہونا جس سے کھال ننگی ہوجائے۔ و۔ الرجلُ : آدمی کا بے خیر ہونا۔ الزَعِر والاَزْعَر : کم اور بکھرے ہوئے بالوں والا۔ موضعٌ زَعِر و اَزْعَر م زَعِرة وزَعْرَاء : کم سبزی والی جگہ۔ الزُعْرُوْر : واحد زُعْرُورَة (ن) ایک سرخ پھل والا درخت، جس کے پھل کی گٹھلی سخت اور گول ہوتی ہے اور گودا کم۔ ــ الجرملی او البستانی (ن) ایک پھل دار درخت جو معتدل اور ٹھنڈے علاقوں میں بویا جاتا ہے اس کا پھل چھوٹے سیب کی طرح ہوتا ہے پکنے پر کھایا جاتا ہے موسمی تغیرات کا مقابلہ کرتا ہے۔ رجل زُعْرُور جمع زَعَارِير : بدخلق، بے خیر۔

۲۔ الزُعْرُمَة (ح) مضطرب اور خوفزدہ رہنے والا، ایک پرندہ۔ الاَزْعَرم زَعِرة وزعراء جمع زُعْرٌ و زُعْران : چور اُچکا سرکش۔ الزُعران : نوجوان لوگ۔ الزَعَارة والزعارّة : بدخوئی، تندمزاجی۔ کمینگی، کینہ جوئی۔ اهل الزَعَارة : آوارہ گرد لوگ۔ الزعارير : اون کے کناروں پر چمٹنے والے گوبر وغیرہ کے ٹکڑے۔

○ زَعِر : پتلے بالوں والا۔

زعط : زَعَطَ - زَعْطاً هُ : کا گلا گھونٹنا۔ موتٌ زَاعِطٌ : جلدی کی موت۔

○ اَزْعَرم زَعْرَاء : پتلے بالوں والا، بے دم۔ اَزْعَر جمع

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

زُعران: رہزن، پتے باز، بدذات۔ موتٌ زاعِط: ناگہانی موت۔

○ زعَطَ: ہانک لے جانا۔

زعف-ا۔ زَعَفَ - زَعْفاًهُ: (کو) موقع پرفوراً ہی مارڈالنا۔ زعَفَ الجريحَ: زخمی کا کام تمام کردینا۔ ازْعَفَ هُ: (کو) موقع پرفوراً ہی مارڈالنا۔ و۔ على الجريح: زخمی کا کام تمام کردینا۔ اِزْدَعَفَ ہ: (کو) موقع پر فوراً مارڈالنا۔ سُمٌّ زُعَافٌ: سم قاتل، فوراً ہلاک کر دینے والا زہر۔ الزعُوف: ہلاکت کی جگہیں، خطرناک مقامات۔ موتٌ مُزْعِف: فوراً ہلاک کردینے والی موت، ناگہانی موت۔ سیفٌ مُزعِفٌ: جلد ہلاک کرنے والی تلوار۔

۲۔ زَعَفَ - زَعْفاً الحديثَ: بات میں جھوٹ شامل کرنا۔

۳۔ زَعْفَرهُ: کوزعفرانی رنگ دینا۔ و۔ الطعامَ: کھانے میں زعفران ڈالنا۔ تَزَعْفَرَ: زعفران سے خوشبودار ہونا۔ زعفران میں لتھڑنا، زعفران بسا ہونا۔ الزعفران: (ن) زعفران، کیسر۔ زعفرانُ الحديد: لوہے کا زنگ۔

۴۔ الزُعَافِق جمع زَعَافِق: بخیل۔ بدخلق۔

زعق: ا۔ زَعَقَ - زَعْقاً: چلانا، چیخنا۔ و۔ بالدابة: جانور کو زور سے بول کر ہانکنا۔ الزَعْقة: چیخ، پکار۔ الزَعَّاق: جانوروں کے پیچھے اونچی آواز میں بولتے ہوئے دور کرنے والا۔

۲۔ زَعَقَ - زَعْقاًهُ وبه: (کو) ڈرانا، خوف دلانا۔ زَعِقَ - زَعَقاً و زُعِقَ وانْزَعَقَ الرجلُ: آدمی کا رات کوڈرنا۔ ازْعَقَ هُ: کوڈرانا، خوف زدہ کرنا۔ الزَعِق: رات کوڈرنے والا وہ شخص جسے خوشی کے ساتھ ڈربھی ہو۔ الزعِيق: خوف زدہ۔

۳۔ زَعَقَ - زَعْقاً القِدرَ: ہانڈی میں بہت سانمک ڈالنا۔ زَعُقَ - زَعَاقةً الماءُ: پانی کا کڑواہونا کہ پیانہ جاسکے۔ ازْعَقَ القِدْرَ: ہانڈی میں بہت سانمک ڈالنا۔ الزُعَاق: سخت کڑوا، پانی جو پیا نہ جاسکے۔ الزُعْوُقة: زعاق کا اسم۔

۴۔ زَعَقَ - زَعْقاتِ الريحُ التراب: ہوا کا مٹی اڑانا۔ زَعِقَ - زَعَقاً: خوش وشادمان ہونا۔ ازْعَقَ السيرَ: چلنے میں جلدی کرنا۔ اِنْزَعَقَ الفرسُ: گھوڑے کا آگے بڑھنا اور تیز چلنا۔ الزَعَّاق من الخيل: بہت اور تیز چلنے والا گھوڑا۔

۵۔ زَعَقَ - زَعْقاً تهُ العقربُ: کوبچھو کا ڈسنا۔

○ زَعُق و زَعِيق: شوروغوغا، چلانا، چیخنا، چیخ مارنا۔

زعل: ا۔ زَعِلَ - زَعَلاً: شادمان ہونا، چست ہونا، ازْعَلَ هُ: (کو) خوش کرنا، چست کرنا۔ تَزَعَّلَ: شادمان ہونا، چست ہونا۔ الزَعِل والزَعْلان والازْعِيل: شادمان، چست۔

۲۔ زَعِلَ - زَعَلاً من المرض وغيره: بیماری وغیرہ سے اکتاجانا اور مضطرب ہونا، عوام کہتے ہیں۔ "زعل منه": وہ اس سے ناخوش ہے۔ ایسا شخص زعلان کہلاتا ہے۔ ازْعَلَ هُ من مكانِه: کواس کی جگہ سے ہٹانا۔ الزَعِل: بھوک سے بیتاب۔

○ زَعِل - زَعَلاً من: سے اکتاجانا، بیزار ہونا۔ ۔: ناراض ہونا، غصے ہونا، برہم ہونا۔ زَعَّلَ ہ: کوبرہم کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ ازْعَلَ ہ: کوبرہم کرنا، تکلیف دینا، زحمت دینا۔ زَعَل: خفگی، غصہ، آزردگی، برہمی، جھلاہٹ، پریشانی۔ زَعِل: برہم، ناراض، غصے، پریشان۔ زَعْلانَ: ایضاً زاعُولة: برہمی، غصہ، جھلاہٹ، پریشانی۔

زعم: ا۔ زَعَمَ - زَعْمًا و زِعْمًا و زُعْمًا و مَزْعماً: کوئی سچی یا جھوٹی بات کہنا (اس کا استعمال بیشتر شکی یا جھوٹی باتوں میں ہوتا ہے)۔ گمان کرنا۔ دعویٰ کرنا۔ تَزَعَّمَ: جھوٹی باتیں کہنا۔ و۔ القومُ على الامرِ: آپس میں غیروثوقی باتیں کرنا۔ الزَعْمة جمع زَعَمَاتَ: زعم کا اسم مرہ۔ کہتے ہیں۔ (هذا ولا زَعَمَتَكَ اوزعاماتِك) یعنی صحیح تو یہ ہے نہ کہ جو تم کہتے ہو۔ الزَعَمَاتُ: غیروثوقی باتیں۔ الزُعْمِيّ: (ضد) جھوٹا، سچا۔ المزعَم: (مص) گمان کہتے ہیں۔ هذا امرٌ مَزْعَمٌ: یہ ایک غیروثوقی بات ہے اس میں ہرایک اپنا خیال ظاہر کرتا ہے۔ المُزَاعِمُ: کہتے ہیں۔ هذا امرٌ فيه مزَاعِم: یہ متنازعہ معاملہ ہے۔

۲۔ زَعَمَ - زَعَامَةً على القوم: کسی قوم کا سربراہ یا پیشوا ہونا۔ زاعَمَ هُ: کسی جگہ بھیڑ کرنا۔ ازْعَمَ اِليه: کسی کا مطیع وفرمانبردار ہونا۔ و۔ على القومِ: قوم کا سربراہ ہوجانا۔ تَزَعَّمَ القومَ: کا پیشوا، قائد، لیڈر ہوجانا۔ و۔ حِزباً اونحوه: کا صدر یا سربراہ ہوجانا۔ الزَعِيم جمع زُعَمَاء: آقا، صدر، سربراہ (اع) کرنل کے برابر، فوجی منصب۔ الزَعَامة: شرافت، شرف برداری، سربراہی، بہترین یا زیادہ مال، ہتھیار، زرہ۔

۳۔ زَعَمَ - زَعْمًا بالمال: مالی کفیل وضامن ہونا۔ الزَعَم، الزَعَامة: اس کا ایک نام (کفالت)۔ ازْعَمَ هُ المالَ: کومال کا کفیل وضامن بنانا۔ و۔ الامرُ: کام کا ممکن ہونا۔ تزَاعَمَ القومُ على الامرِ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ الزعيم جمع زُعَمَاء: کفیل، ضامن۔

۴۔ زَعَمَ - زَعْماً اللبن: دودھ کا خوش ذائقہ ہونا۔ ازْعَمَ اللبنُ: ایضاً۔ و۔ تِ الارضُ: زمین میں سبزہ کا پھوٹنا۔ الزَعِم من الشواء (ط): بہت چربی والا کہ آگ پر رکھتے ہی پگھل جائے۔

۵۔ زَعِمَ زَعَمًا فيه: کا لالچ کرنا۔ المَزْعَم: لالچ۔ ازعَمَ هُ: (کو) کھلانا۔

۶۔ الزَعُوم: عاجز از کلام۔ المزْعَامَة: سانپ۔

○ زَعَمَ - زَعْمًا اَن: بڑے وثوق سے کہنا کہ، کہنا کہ۔ ل أن: سے بیان کرنا کہ ـــ یقین کرنا۔ ہ ھ: کوغلطی سے کچھ سمجھ بیٹھنا، کو کچھ خیال کرنا یا سمجھنا۔ زعم لِنفسِهِ ھ: کا دعویٰ کرنا۔ پرحق جتانا۔ تَزَعَّمَ: لیڈر بن جانا۔ ب۔ ہ: کا لیڈر ہونا۔ ـ ھ: (فوجی دستہ وغیرہ کی) کمان کرنا، قیادت کرنا۔ ـــ: لیڈر بن بیٹھنا، اپنے آپ کو لیڈر ظاہر کرنا۔ فی زَعْمِهِم: جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ زَعِيم جمع زُعَمَاء: لیڈر، رنگ لیڈر، کرنل، بریگیڈیر جنرل۔ ـ ب: کا ضامن۔ زَعَامَة: لیڈر شپ، قیادت، سیاست میں قائدانہ حیثیت۔ مَزَاعِم: دعوے، الزامات، قیاسات، مفروضے۔ مزعوم: دعویٰ کیا ہوا، مبینہ، نام نہاد۔

زعن: زَعْنَفَ تِ الماشِطةُ العروسَ: مشاطہ کا دلہن کو آراستہ کرنا۔ الزَعْنَفَة والزِعْنِفة جمع زعانِف: پست قد، ہر چیز کا حصہ، اطراف بدن جیسے ہاتھ، پیر قبیلہ کا ایک ٹکڑا جو اکیلا ہو یا دوسرے میں شامل ہو جائے، کپڑے کا ٹکڑا یا پھٹا ہوا دامن، چیز کا ردی حصہ، کمینہ، مصیبت۔ الزَعانِفُ: مچھلی کے پر۔ مخلوط گروہ جو ایک نسل سے نہ ہوں۔

○ زِعْنِفَة جمع زَعانِف: ہجوم، ٹولی، انبوہ، اراذل۔ مچھلی کے پر۔

زعا: زعا- زَعْوًا: منصف ہونا، عادل ہونا۔

زغّ: ا۔ زَغْزَغَ الكلامَ: رکیک گفتگو کرنا۔ و۔ بالرجلِ: سے ٹھٹھا کرنا سے تمسخر کرنا، ہنسی مذاق کرنا۔ الزَغْزَغ: سبک وچست آدمی۔ حسب ونسب میں مطعون۔

۲۔ زَغْزَغَ الشيءَ: (کو) چھپانا۔

۳۔ الزُغْزُغ: پستہ قد۔ ایک پرندہ۔ الزُغْزُغِيَّة: بعض عجم کی زبان۔

زغب: ا۔ زَغِبَ - زَغَباً و زَغَّبَ وازْغابَّ الصبيُّ او الفرخُ: بچے یا چوزہ کا رواں نکلنا۔ ایسا بچہ یا چوزہ زَغِبٌ کہلاتا ہے۔ ازْغَبَ الكَرمُ: انگور کی بیل کا پتہ دار ہونا۔ الزَغَب واحد زَغَبة: پروں یا بالوں کی روئیں۔ چھوٹے بالوں یا پروں والے زَغَبُ البراعِم: پہلے بال یا پر جو نباتات کے غنچوں کو ڈھک لیتے ہیں۔ خصوصاً انگور کی بیل کے غنچے عرب اور اہل ہند کھجور کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پہلے نکلنے والے بالوں سے بعض قسم کے کپڑے بنایا کرتے تھے۔ بعض جانوروں جیسے گائے بھینس اور کھجوروں کے گھنے بال۔ جوزین اور عرقِ گیر کو استر لگانے میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ الأزغب م زغباء جمع زُغبٌ: روئیں دار (ح) تیتر کا چوزہ۔ الزُغبة (ح) گلہری۔ الزُغابة والزُغابی: بہت چھوٹے روئیں، بہت نرم پر یا بال کہتے ہیں۔ ما اصبت منه زُغابة: میں نے اس سے روئیں برابر بھی کچھ نہیں لیا۔ الزُغُب: پستہ قد، بخیل۔

◌ زَغِبَ: روئیں زَغِب: روئیں دار۔ ازغب: ایضاً۔

۲۔ زَغبَرَ الثوبُ: کپڑے کا روئیں دار ہونا۔ الزَغبَر: رواں کہتے ہیں۔ اخذ الشیء بِزَغبَرِه: یعنی اس نے ساری چیز لے لی۔ الزِغبِرة: چھوٹے پر، صحیح لفظ الزغب ہے، کپڑے کا رواں فصیح الزئبرة ہے۔ الزغب الزِغبُر: بمعنی زَغبَر۔

زغد: ۱۔ زَغَدَ - زَغدًا السقاءَ: مشک کو نچوڑنا۔ و۔ فلاناً: کا حلق دبانا۔ و۔ البعیرُ: اونٹ کا بہت بلبلانا۔ و۔ النهرُ: دریا کا چڑھنا۔ زَغَدَتِ المرأة ولدَها: عورت کا بچے کو دودھ پلانا۔ الزَغید والزَغیدة: مکھن جو مشک دبانے پر پھوٹ کر نکلے۔ نهرٌ زَغّاد: پانی سے لبریز، موجیں مارتا دریا۔

۲۔ زَغَدَ - زَغدًا ہُ بالکلام: کو باتوں سے اکسانا، بھڑکانا۔

◌ زَغَدَ - زَغدًاہ: کو کہنی مارنا۔

زغر: ۱۔ زَغَرَ - زَغرًا الشیءَ: (کو) چھیننا، غصب کرنا۔

۲۔ زَغِرَ - زَغَرًا الشیءُ: چیز کا بکثرت ہونا۔ و۔ البحرُ: دریا کا چڑھنا، موج زن ہونا۔ الزَغر و الزَغر من کل شیء: ہر چیز کی کثرت اور افراط۔

◌ زغر ل/ الی: کو حیرانی یا شک کی نظر سے دیکھنا، بری نظر ڈالنا۔

۳۔ زَغرَبَ: ہنسا۔ الزَغرَب: بہت پانی۔ بئر زَغرَبٌ و زَغرَبة: بہت پانی والا کنواں۔

۴۔ زَغرَدَ زَغرَدةً البعیرُ: اونٹ کا بلبلانا اور بلبلا کر اپنے حلق میں بار بار لوٹانا۔ زغردة النساء جمع زغارید: عورتوں کی مسرت کے وقت آواز۔

◌ زَغزَغَ ہ: کو چھپانا، مخفی رکھنا۔ ہ: کو گدگدانا، گدگدی کرنا۔

◌ زُغطَة: ہچکی۔

زغف: ۱۔ زَغَفَ - زَغفًا الماءُ: پانی کا بہت ہونا۔ و۔ فی حدیثه: بہت باتیں کرنا اور اس میں جھوٹ کی آمیزش کرنا۔ کہتے ہیں۔ زَغَفَ کلامًا کثیرًا: یعنی اس نے لمبی گفتگو کی۔ وزَغَفَ لنا مالاً کثیرًا: یعنی اس نے ہم کو بہت مال دیا۔ اِزدَغَفَ الشیءَ: زیادہ یا سارا مال لینا۔ الزَغف (مص): برس کر آسمان پر چھایا ہوا بادل۔ الزَغّاف: بہت باتیں کرنے والا۔ المِزغَف: حریص، لالچی۔

۲۔ زَغَفَ - زَغفًا ہُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ الزَغف (مص): بڑی اور لمبی زرہ۔ درع زَغِیف: کشادہ مضبوط کڑیوں والی زرہ کہتے ہیں۔ دروع زَغفٌ و زَغَفٌ و ازغافٌ و زُغوفٌ: کشادہ، مضبوط کڑیوں والی زرہیں۔ الزَغفَة والزَغَفَة: کشادہ اور مضبوط زرہ۔

۳۔ الزَغَف: جلانے کی لکڑی کے باریک ٹکڑے، درخت کی نازک شاخیں۔

زغل: زَغَلَ - زَغلاً الماءَ: پانی کو بار بار تھوڑا تھوڑا گرانا۔ و۔ الشرابَ: پانی کی کلی کرنا۔ و۔ الصبیُّ اُمَّه: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ عوام کہتے ہیں۔ زَغَلَ الذهبَ وغیرہ: سونے وغیرہ میں ملاوٹ کرنا۔ أزغَلَ الماءَ: پانی ڈالنا۔ و۔ تِ الامُ ولدَها: ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا۔ و۔ الطائرُ فرخَهُ: پرندے کا اپنے چوزے کو چوگا دینا۔ و۔ الشرابَ: پانی کی کلی کرنا۔ الزَغَل: دھوکا، کھوٹ، ملاوٹ۔ الزُغَلِیّ: دھوکے باز۔ الزُغلَة: وہ پانی جو آپ کلی کرتے ہوئے اپنے منہ سے نکالیں۔ ایک بار کا پانی گرانا یا ڈالنا۔ ایک مرتبہ پانی گرانے کی مقدار۔ الزُغلول جمع زَغالیل: بچہ، کبوتر کا چوزہ، چست پھرتیلا آدمی۔

زغم: تَزَغَّمَ الجملُ: اونٹ کا اپنی جگالی کو اپنے جبڑوں میں پھرانا کہتے ہیں۔ تَزَغَّمَ الرجلُ: آدمی کا غصہ سے بولنا۔ الزُغوم والزُغموم: ہکلا، اٹک اٹک کر بولنے والا۔

زف: ۱۔ زَفَّ - زَفًّا و زُفوفًا و زَفِیفًا: جلدی کرنا، تیز چلنا۔ و۔ تِ الریحُ: ہوا کا آہستہ چلنا۔ و۔ زَفًّا و زَفِیفًا الطائرُ: پرندہ کا پر پھیلا کر اترنا۔ و۔ زُفًّا و زِفافًا البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ ازَفَّ الرجلُ: آدمی کا تیز دوڑنا۔ و۔ ہُ: کو تیز دوڑانا۔ اِستَزَفَّهُ السیلُ: سیلاب کا (کو) بہالے جانا۔ و۔ ہُ السیرُ: (کو) سبک بنانا۔ الزُفّه: زُمرہ۔ الزَّفَّة: زف کا اسم مرة کہتے ہیں۔ جئتهُ زَفَّةً او زَفَّتین: میں اس کے پاس ایک یا دو دفعہ آیا۔ الأزَفّ: تیز رفتار۔ الزفیف و الزفان و الزفّاف: تیز رفتار اور ہلکا پھلکا۔ الزَفوف: شترمرغ۔ و۔ من النوق: تیز رفتار اچھی چال کی اونٹنی۔ قوس زَفوف: لچکدار کمان۔

۲۔ زَفَّ - زَفًّا و زِفافًا العروسَ الی زوجها: دلہن کو دولہا کے پاس بھیجنا۔ ازَفَّ العروسَ الی زوجها: دلہن کو دولہا کے پاس بھیجنا۔ اِزدَفَّ العروسَ: دلہن کو دولہا کے پاس بھیجنا۔ و۔ الحِملَ: بوجھ اٹھانا۔ زَفَّة العروس: دلہن کے گرد اظہار مسرت کے لئے چکر لگانا۔ المِزَفَّة: ڈولی، پالکی۔

۳۔ الزِف: چھوٹے چھوٹے پر۔ الزَفَف: پرندہ کے گھنے اور ایک پر ایک چڑھے ہوئے روئیں۔ الأزَفّ: باریک اور گھنے پروں والا۔

۴۔ زَفزَفَ الرجلُ: تیز دوڑنا، اچھی چال چلنا۔ و۔ الطائرُ: پرندہ کا اپنے پر پھیلانا اپنے آپ کو نیچے اتارنا۔ و۔ تِ الریحُ الحشیشَ: ہوا کا گھاس کو ہلا کر اس میں سے سائیں سائیں کی آواز نکالنا۔ و۔ المرکبُ: سواری کے چلنے سے آواز سنائی دینا۔ الزَفزَف: پیہم تیز چلنے والی ہوا۔ الزَفزاف: پیہم تیز چلنے والی ہوا۔ (ح) شترمرغ، ہلکا۔

◌ زَفَّ - زَفًّا و زُفوفًا: جلدی کرنا۔ - زُفًّا و زِفافًا ها الی/ علی: برات میں دلہن کو دولہا کے پاس لیجانا۔ زُفَّت الی: لڑکی کی کسی سے شادی ہو جانا۔ زف الی ہ: کو کوئی اطلاع دینا۔ ہا الی: کو کچھ بتانا۔ زَفَّ البُشری الی: کو خوش خبری دینا۔ زَفَّة: لوگوں کا جلوس، برات۔ زَفَّة: ایک بار، ایک دفعہ، ایک مرتبہ۔ زِفاف: شادی، شادی کی تقریب۔ لَیلَة الزِفاف: سہاگ رات۔ زَفُوف: شترمرغ، بیڑا، تیز رفتار اونٹ۔ زَفِیف: ہوا کی سائیں سائیں، ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ مِزَفَّة: دلہن کی ڈولی، پالکی۔

زفت: زَفَتَ - زَفتًا الاناءَ: برتن کو بھر دینا۔ و۔ الرجلَ: آدمی کو ناراض کرنا، روکنا، دھتکارنا، تھکانا کہتے ہیں۔ زَفَتَ الحدیثَ فی اذن الأصمّ: یعنی اس نے بہرے کے کان میں بات ڈال دی۔ زُفِّتَت السفینة: کشتی پر زفت ملنا۔ الزِفت: رال۔

◌ زَفَّتَ: رال لگانا۔ ہ: (سڑک پر) اسفالٹ بچھانا۔

زِفت: رال، اسفالٹ۔ زِفت و قطران: ناخوشگوار، برہم کن، تکلیف دہ، بدنصیبی۔ مِزفَتة جمع مَزافِت: اسفالٹ بچھانے کی مشین۔ تزفیت: اسفالٹ بچھانا۔

زفد: زَفَدَ - زَفدًا الاناءَ: برتن کو بھر دینا۔ فرسٌ شعیرًا: گھوڑے کو بہت جو کھلانا۔ اِزدَفَدَ المالَ: سارا مال لے لینا۔

زفر: ۱۔ زَفَرَ - زَفرًا و زَفِیرًا تِ النارُ: آگ کے بھڑکنے کی آواز سنائی دینا۔ و۔ الرجلُ: لمبا سانس

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لینا۔ ــ الحمارُ: گدھے کا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگنا۔ الزِفرُ جمع اَزفار: بھاری بوجھ۔ الزَفرۃ جمع زَفرات: لمبا سانس، گدھے کا ڈھینچو ڈھینچو۔ و۔ والزُفرۃ: لمبا سانس، گرم سانس۔ الزافِرۃ جمع زَوافِر: کمان۔ الزَفیر (مص) گدھے کی پہلی آواز، اسکی آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ المُزفَر والمَزدفَر: لمبا سانس، سانس لینے کی جگہ۔

۲۔ زفَر ـِ زَفرًا و زَفیرًا تِ الارضُ: زمین کی روئیدگی ظاہر ہونا، زمین کا سبزہ اُگنا۔

۳۔ زفَر ـِ زَفرًا الماءَ: پانی کھینچنا۔ و۔ الشیءَ: چیز کو اٹھانا۔ اِزدفَر الشیءَ (کو) اٹھانا۔ الزِفر جمع أزفار: مشک، مشکیزہ، مسافر کا سامان۔ الزُفَر: مشکیں اٹھانے کی طاقت رکھنے والا، دریا، لبالب بھری ہوئی ندی، آقا، سخی، بہت بخشش، شیر، بہادر۔ الزِفر: وہ چیز جس سے درختوں کو سہارا اور تقویت بہم پہنچائی جائے۔ تھم۔ زَفرۃ و زُفرۃ الدابۃ: جانور کا پھولا ہوا پہلو۔ فرسٌ اَزفَر جمع زُفر: مضبوط پسلیوں والا گھوڑا۔ الزافِرۃ جمع زَوافِر: کندھا اور اس کا گردا گرد، بڑا سردار۔ زافِرۃ الرجل: آدمی کے اقارب و اعوان وانصار۔ و۔ البناء: عمارت کا تھم۔ الزَوافِر: لونڈیاں جو پانی کی مشکیں بھر کر لاتی ہیں، انگوروں کی بیل کو اٹھانے کے جنگلے کے شہتیر، پسلیاں کہتے ہیں۔ فرسٌ شدید الزوافِر: مضبوط پسلیوں والا گھوڑا۔ زَوافِر المَجد: بزرگی کے اسباب اور ستون۔ المَزفُور من الدوابّ: مضبوط جوڑوں والا جانور۔

۴۔ تزفَّر: زفر کھانا۔ الزَفر عند المسیحیین: گوشت اور دودھ وغیرہ کا کھانا اور پینا، اس کی ضد قطاعہ ہے جس کا معنی ان کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال نہ کرنا۔

۵۔ الزِفر ج اَزفار: جماعت گروہ، دستہ فوج۔ الزُفر: دستہ فوج۔ زَفرۃ و زُفرۃ الشیء: چیز کا وسط۔ الزافِرۃ جمع زَوافِر: مصیبت، پر کے علاوہ تیر کا باقی حصہ یا پیکان کی جانب دو ثلث سے کم، گروہ، دستہ فوج۔ الزفیر: مصیبت۔

○ زفَر ـ زفرًا و زفیرًا: لمبا سانس لینا، لمبے لمبے سانس لینا، ہانپنا (کی) سانس پھولنا، کراہنا۔ زَفرۃ جمع زَفرات: آہ، کراہ، زَفیر: سانس باہر نکالنا، سانس لینا، کراہنا، کراہیں۔ زفَّر: کو چکنائی سے گندا کرنا، بھرنا یا کلونسنا۔ ــ زفَر: چکنائی، گریس، چکنائی دار خوراک۔ زفِر: چکنا، میل سے بھرا ہوا، گندا، بدبودار۔

○ زَفزَفۃ: سائیں سائیں کرنا، (ہوا کا) سیٹیاں بجانا۔

زفن: ا۔ زفَن ـِ زَفنًا: ناچنا، زور کا دھکا دینا اور لات مارنا کہتے ہیں۔ دنوت منه فزفنی: میں اس کے نزدیک ہوا تو اس نے مجھے لات ماری۔ الناقۃ الزافِنۃ والزَفّون: لنگڑی اونٹنی۔ الزفّان: ناچنے والا۔ رقاص۔ الاُزفُنّۃ: حرکت۔ رجلٌ اِزفَنّۃ: حرکت کرنے والا آدمی، متحرک۔

۲۔ الزِفن (ب) چھت کے اوپر کا چھپر۔

۳۔ الزیزفون: (ن) ایک عناب۔ ناقۃ زیزَفونٌ: تیز رفتار اونٹنی۔

زفی: ا۔ زفَی ـِ زَفیًا و زَفَیانًا تِ القوسُ: کمان کا آواز دینا۔ و۔ تِ الریحُ السحابَ والترابَ ونحوهما: ہوا کا بادل اور مٹی وغیرہ کو اڑانا۔ اَزفَی الشیءَ: کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ اَزفیتُ العروسَ: میں دلہن کو اس کے دولہا کے گھر لے گیا۔ الزافِی: ہلکا تیز رفتار۔ الزَفَیان (مص): ہلکا پن، ہلکا۔ ناقۃٌ زفَیان: تیز رفتار اونٹنی۔ المَزفِیّ، المُنزفِی والمُتزفِّی: ڈرایا ہوا، خوف زدہ۔

۲۔ زفَی ـِ زَفیًا و زَفَیانًا الرجل بنفسهٖ: جان دینا۔

زق: ا۔ زقّ ـُ زقًّا الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ و۔ فرخہٗ: پرندہ کا اپنے چونچ سے اپنے چوزے کو چوگا دینا۔ چوزے کو چوگا دینا۔ الزقّ: پالتو پرندوں کو جلد موٹا کرنے کے لئے زبردستی خوراک دینا۔ الزَقّاقۃ: چوزوں کو چوگا دینے والے کبوتر، چھوٹے بچوں کو پیار کرنے والے۔

۲۔ زقّ ـُ زقًّا الکبشَ: مینڈھے کی کھال اتارنا۔ زقّق الکبشَ: مینڈھے کی کھال اتارنا۔ و۔ الجلدَ: چمڑے کے بال کاٹنا۔ الزِقّ جمع اَزقاق و زِقاق و زُقّان و اَزُقّ: مشک۔ زِقّ الحدّادِ: لوہار کی دھونکنی، بھٹی۔ الزُقّ جمع زِقَقۃ: شراب۔ الزقّاق: مشکیں بنانے والا، مشک ساز۔

۳۔ الزُقاق جمع اَزِقّۃ و زُقّان: کوچہ گلی، تنگ گلی (مذکر و مؤنث)۔ الزُقّۃ: و الزُقَق: (ح) پن ڈبی نامی ایک آبی پرندہ، جو پکڑنے سے پہلے غوطہ لگا کر دور چلا جاتا ہے۔

۴۔ زَقزَق زَقزَقۃً و زِقزاقًا الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ آواز دینا، چہچہانا۔ و۔ الرجلُ: ہلکی ہنسی ہنسنا، مسکرانا۔ و۔ فرخہٗ: چوزے کو چوگا دینا۔

۵۔ زَقزَق زَقزَقۃً و زِقزاقًا الصبیَّ: بچہ کو کدانا۔ و۔ الرجلُ: ہلکا ہونا۔ الزَقزاق: آہستہ چلنے والا۔ ایک قسم کی چیونٹی۔

○ زقّ ـُ زقًّا: پرندے کا اپنے چوزے کو چوگا دینا۔ زِقّ جمع اَزقاق و زِقاق و زِقاقۃ: مشک۔ زُقاق جمع اَزِقّۃ: گلی، کوچہ، آبنائے، ہلکی گزرگاہ۔ زقزق زقزقۃً: چہچہانا، چوں چوں، چیں چیں کرنا۔ ــ ہ: (چوزے) کو چوگا دینا۔ ــ ہ: (بچہ کو) اچھالنا۔ (اپنے بازوؤں میں) زِقزاق: سمندری کوا۔ الزقازیق: شمالی مصر کا ایک شہر۔

زقب: ا۔ زقَب ـُ زُقبًا الجرذُ فی جحرہ: چوہے کا اپنے بل میں داخل ہونا۔ و۔ ہٗ فی الجحر (کو) بل میں داخل کرنا (لازم و متعدی)۔ اِنزقَب الجرذُ فی الجحر: چوہے کا بل میں داخل ہونا، گھسنا۔

۲۔ زقَّب المُکّاءُ: مکا پرندہ کا آواز کرنا۔ چہچہانا۔

۳۔ الزقَب: تنگ راستہ، نزدیکی کہتے ہیں۔ رمیتُہٗ مِن زقَب: میں نے اسکو نزدیک سے تیر مارا۔

زقح: زقَح ـَ زَقحًا و زُقاحًا القردُ: بندر کا چڑ چڑ کرنا۔

زقع: زقَع ـَ زَقعًا و زُقاعًا الدیکُ: مرغے کا بانگ دینا، ککڑوں کوں کرنا۔ ــ الحمارُ: گدھے کا زور سے گوز کرنا۔

زقف: ا۔ زقَف ـُ زَقفًا الشیءَ: کسی چیز کو یک بیک چھین لینا یا اچک لینا۔ تزقَّف و اِزدقَف الشیءَ: کسی چیز کو یک بیک چھین لینا یا اچک لینا۔ تزقَّف الکرۃَ بالصولجان (اس نے ہاکی سے گیند چھین لی) ـ و۔ اللقمۃ: لقمہ نگلنا۔ الزُقفۃ: نگلی ہوئی چیز، چھینی ہوئی چیز۔

زقّف: تالی بجانا۔ (عام بول چال میں)

زقل: زَوقَل العمامۃ: پگڑی کے دونوں سرے اپنے سر کے دونوں جانب سے ڈھیلے کرنا، لٹکانا۔ ذَواقیل العمامۃ: پگڑی کے نیچے سے نکلے ہوئے بال۔

○ زُقلۃ و زُقلیۃ: چھوٹا ڈنڈا، سپاہی کا ڈنڈا، عصائے منصبی۔ زَقیلۃ: جمع زقائل: تنگ سڑک، پگڈنڈی۔

زقم: زقَم ـُ زَقمًا و اِزدقمہٗ: کو نگلنا۔ زقَّمہٗ: (کو) تھوہڑ کھلانا۔ اَزقمہ الشیءَ: کو کوئی چیز نگلوانا۔ تزقَّم: لقمہ لینا، نگلنا، تھوہڑ کھانا۔ ــ اللبنَ: بہت دودھ پی لینا۔ الزُقمۃ: طاعون، ایک دفعہ کا نگلنا۔ الزَقُّوم: مہلک خوراک۔

○ اِزدقمہٗ: (کھانا) نگلنا۔ زقوم: نہایت کڑوے پھل کا درخت جو دوزخیوں کو کھلایا جاتا ہے۔

زقن: زقَن ـُ زَقنًا الحملَ: بوجھ اٹھانا۔ اَزقنہٗ: بوجھ اٹھانے میں کسی کی مدد کرنا۔

زقا: ا۔ زقا ـُ زَقوًا و زُقاءً و زُقیًّا و زَقیًا و زُقُوًّا و زقِی ـَ زَقیًا الطائرُ: پرندہ کا چہچہانا۔ زاقٍ جمع زَواقٍ، زاقیۃ جمع زَواقی: چہچہانے والا پرندہ۔ ضرب المثل ـ هو اثقل من الزَواقی: وہ مرغوں سے بھی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زیادہ وزنی ہے۔لوگ رات کوگپ شپ کے لئے اکٹھے ہوتے اور اس میں اتنے مستغرق ہو جاتے کہ جب مرغے بانگیں دینے لگتے توانہیں پتہ چلتا کہ رات ختم ہوگئی ہے تو وہ گپ شپ بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ـــ الصبیُ: بچے کا زورزور سے رونا۔ اَزْقی ہُ: کورُلانا۔ الزَقِیَة: چیخ۔ الزُقْیَة: درہموں وغیرہ کا ڈھیر۔

○ زُقاء: مرغ کی بانگ۔

زك: ا۔ زَكَّ ـِ زَكّاً و زَكَكاً وزَكِيكاً الشیخُ: بوڑھے شخص کا دوڑنا اور کمزوری کی وجہ سے قریب قریب قدم رکھنا۔و۔زَكَّا الغلامُ: لڑکے کا دوڑنا۔ زُكَّ الـرجـلُ: آدمی کا بوڑھا ہونا، بیماری سے کمزور ہونا۔ الزُكّ (ح): فاختہ کا چوزہ۔

۲۔ زَكَّ ـِ زَكَّا القربَةَ: مشک کو بھرنا۔و۔ ہُ الـماءَ: کو سیراب کرنا۔ اِزْدَكَّ الزَرعُ: کھیتی کا سیراب ہونا۔

۳۔ زَكَّ ـِ زَكّاً علی فلانٍ: پرغضبناک ہونا۔ تزَكَّكَ: ہتھیار اٹھانا۔ الزُكَّة: غم وغصہ۔ الزِكَّة: ہتھیار۔

۴۔ زَكَّ ـِ زَكّاً بسلحه: بیٹ کرنا۔

۵۔ اَزَكَّ علی الامر: پراصرار کرنا۔بِـرَأیِـه: رائے میں اکیلا ہونا۔

۶۔ زَكْزَكَ الشیخُ: بوڑھے کا کمزوری کی وجہ سے قریب قریب قدم رکھ کر چلنا۔و۔ ہ زَكْزَكَةً فتَزَكْزَكَ: (کو) گدگدانا اور اس کا اس سے متاثر ہونا (عام بول چال میں) تزَكْزَكَ: اپنے ہتھیار اٹھانا۔

زكا: ا۔ زَكَأَ ـَ زَكْأً ہُ الدراھم: کونقد درہم دینا یا جلدی نقد درہم دینا۔ و۔ ہُ حقَّهُ: کسی کا حق ادا کرنا۔ اِزْدَكَأَ حقَّهُ منه: سے اپنا حق لینا۔ رجلٌ زُكَأٌ وزُكَأَةٌ وزُكَّاء النقد: جلد نقد روپے ادا کرنے والا۔

۲۔ زَكَأَ ـَ زُكْأً الیه: کی پناہ لینا، کے پاس پناہ لینا۔ المَزْكَأ: پناہ گاہ۔

۳۔ زَكَأَ ـَ زَكْأَہُ: کو مارنا۔

زكب: زَكَبَ ـُ زَكْباً وزُكُوباً الاناءَ: برتن کو بھرنا۔و۔ تِ المرأةُ: عورت کا ایک ہی درد میں بچہ جن دینا۔ اِنـزَكَبَ البحرُ: سمندر کے پانی کا پست زمین یا گڑھے میں داخل ہونا۔ الزُكْبة: لڑکا۔

○ زَكَب ـُ زُكُوباً ہ: کو بھرنا۔ زَكِیبة جمع زَكائِب: بوری، ٹاٹ کی بوری۔

زكت: زَكَتَ ـُ زَكْتاً و زَكَّت و اَزْكَتَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

زكر: زَكَّرَ و تزَكَّرَ الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ الزُكْرَة جمع زُكَر: چمڑے کا برتن شراب وغیرہ رکھنے کے لئے۔

○ زُكْرَة جمع ذُكَر: شراب کا مشکیزہ۔ الغوزہ سے مشابہ ایک آلہ موسیقی۔

زكم: ا۔ زَكَمَ ـُ زَكْماً و ازكَمَ القِربَةَ: مشک کو بھرنا۔و۔ ہُ: کو زکام میں مبتلا کرنا۔ زُكِمَ: کو زکام ہونا۔ مَزْكُوم: زکام میں مبتلا۔ الزُكام: (طب) زکام، نزلہ۔ الزُكْمَة: زکام، نزلہ۔

۲۔ زَكَمَ ـُ زَكْماً وازْكَمَتْ به اُمُّهُ: کو اس کی ماں کا جننا۔ الزُكْمَة: اولاد کہتے ہیں۔ لفلان زُكْمةُ سوءٍ: یعنی فلاں شخص کی اولاد بری ہے۔ الزُكْمَة: ماں باپ کا آخری بچہ۔کہا جاتا ہے۔ھو زُكْمَةُ وَلِدابیه: یعنی وہ اپنے باپ کی آخری اولاد ہے۔

۳۔ الزُكْمة: بھاری اجڈ۔

زكن: ا۔ زَكِنَ ـَ زَكَناً الامرَ: کسی بات کو سمجھ لینا، تاڑ جانا، گمان کرنا کہتے ہیں۔زكنتُ انه رجُلُ سوءٍ: یعنی مجھے علم ہوا، یا میرے علم میں آیا کہ وہ برا آدمی ہے۔و۔منه عداوةً: کی عداوت کا پتہ لگالینا۔ زَكَّنَ: گمان کرنا۔ ـ علیه: کو مشتبہ کرنا، دھوکہ دینا۔ اَزْكَنَ ہُ الامَر: کو معاملہ سے آگاہ کرنا اور سمجھانا۔و۔ الشیءَ: کو صحیح گمان کرنا۔ رجُلٌ زُكَنٌ: اچھی یادداشت والا۔ رجُلٌ زَكِنٌ: زیرک، سمجھدار آدمی۔ الزَكانَة و الزَكانِیَة: گمان کی درستی اور سچائی۔

۲۔ زَكِنَ ـَ زُكُوناً الیه: کی پناہ لینا سے مل جل جانا۔ زَاكَنَ ہُ: ایک دوسرے کے قریب ہونا کہتے ہیں۔ ھذا جیشٌ یزاكن الالفین: یہ لشکر دو ہزار کے قریب ہے۔و۔ ہُ: کے قریب ہونا، کا ہم نشین ہونا۔

○ زَكانَة: حاصل کرنے یا دیکھنے کی صلاحیت، وجدان۔

زكا: ا۔ زَكَا ـُ زَكاءُ و زَكی ـ زَكیٌّ الزرعُ: فصل کا بڑھنا، پھلنا پھولنا۔و۔ تِ الارضُ: زمین کا عمدہ ہونا۔و۔ الرجُلَ: آدمی کا خوشحال زندگی گزارنا۔ زَكَّی: پھلنا پھولنا اور بڑھنا۔و۔ ہُ اللّٰهُ: کو اللہ کا بڑھانا۔ ازْكَی الزرعُ: فصل کا بڑھنا۔و۔ ہُ اللّٰه: کو اللہ کا بڑھانا۔ تزَكَّی الشیءُ: چیز کا بڑھنا اور زیادہ ہونا۔فروغ حاصل کرنا۔ الزاكی (فا) جمع زُكاة: اچھی نشوونما پانے والا۔ الزَكِیّ جمع ازْكِیاء م زَكِیَّة: عمدہ نشوونما پانے والا کہتے ہیں۔ارضٌ زَكِیَّة: عمدہ اور زرخیز زمین۔

۲۔ زَكَا ـُ زَكَاءً و زُكُوّاً و زَكِیَ ـَ زَكی الرجُلُ: نیک وصالح ہونا، زکی یعنی زیرک اور سمجھدار ہونا کہا جاتا ہے۔ ھذا لا یزكو بك: یعنی یہ تمہارے لائق نہیں۔ زَكَّی ہُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو پاک کرنا، ٹھیک کرنا۔ زكاة: لینا۔ ـــ نفسَهُ: اپنی تعریف کرنا۔ ـــ مالَهُ: مال کی زکاۃ دینا۔ تزَكَّی: صدقہ دینا، زیرک ہونا۔ الزكاة جمع زَكاً وزَكَوَات: زکوٰۃ، صدقہ، پاکیزگی، چیز کا عمدہ حصہ۔ الزَكِیّ جمع اَزْكِیاء م زَكِیَّة: صالح، زیادہ بھلائی اور فضیلت والا۔ گناہوں سے پاک۔ التزكیة: زَكّی کا مصدر۔زکوٰۃ۔ تزكیة الشھود: گواہوں کو معتبر جاننا اور انہیں سمجھدار قرار دینا۔

۳۔ زَكِّی: پیاسا ہونا۔

۴۔ الزَكَا: جفت عدد، کہا جاتا ہے۔أَخَساً ھذا ام زَكاً: یہ طاق ہے یا جفت؟

○ زكا ـُ زَكَاءً: پھلنا پھولنا، پنپنا، بڑھنا، زیادہ ہونا، دلی طور پر پاکیزہ ہونا، عادل ہونا، اچھا یا نیک اور خداترس ہونا۔ ـــ ب: کے لائق ہونا، کے لئے موزوں ہونا، مناسب ہونا۔ زَكِیَ ـَ: بڑھنا، زیادہ ہونا۔ زَكَّی ہ: کو زیادہ کرنا، بڑھانا، میں اضافہ کرنا، کو پاک کرنا، سدھارنا۔ ـــ ہ: کی برأت کرنا۔کا جواز پیش کرنا، کا ذمے دار ہونا، کی دیانت کی گواہی دینا، کو دیانت قرار دینا، کے پہلے آبرومندانہ کردار کی تصدیق کرنا۔ ـ ہ: کی سچائی، معقولیت، یا اعتبار کی تصدیق، شہادت دینا۔ ـ ہ: کی تعریف کرنا۔ ـ: مشورہ دینا۔ اَزْكَی ہ: کو بڑھانا، اگانا۔ تَزَكَّی: پاکیزہ ہونا، سدھرنا، نفس مارنا۔ زَكِی جمع أَزْكِیا: پاک، پارسا، نیک، بے گناہ، زَكاء: نشوونما، افزائش، (اخلاقی) پاکیزگی، دیانت، دیانت داری، نیکی، انصاف۔ زكـلة: (زکوۃ) جمع زكاً و زَكَوَات: پاکیزگی، انصاف، دیانت، دیانت داری، جواز، برأت، خیرات دینا، جرات، سخاوت، انسانی ہمدردی۔خیراتی ٹیکس۔ زكاة الفطر: ماہ رمضان کے آخر میں کھانے کی چیزوں کا لازمی عطیہ۔ اَزْكی: زیادہ پاکیزہ، زیادہ موزوں، زیادہ مناسب، بہتر۔ تَـزْكِیَة: پاک کرنا، سدھانا، اپنی دیانت اور یقین کا باقاعدہ اعلان، کسی گواہ کی دیانت دارانہ کردار کی تصدیق۔

زلّ: ا۔ زَلَّ ـِ زَلّاً و زَلَلاً و زُلُولاً و زَلِیلاً و مَزِلَّةً و زِلِّیلَی و زِلِّیلاءَ: پھسلنا، گرنا۔و۔عن الحق والصواب: حق وصواب سے پھرنا، منحرف ہونا۔و۔ عمرُہُ: زندگی کا گزر جانا۔و ـِ زلیلاً و زُلُولاً: تیزی سے گزر جانا۔ و ـــ ـَ زَلَلاً: کمزور اور ہلکے سرین والا ہونا۔ ازَلّ م زَلّاء جمع زُلّ: کمزور اور ہلکے سرین والا۔ ازَلَّ ہُ: کو پھسلانا، سے لغزش کرنا۔ اِسْتَزَلَّ ہُ: کو پھسلانا، سے لغزش کرانا۔ الـزُلّ: پھسلنے کی جگہ (مذکر ومونث)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کہتے ہیں۔ مکانٌ زَلٌّ و ارضٌ زَلٌّ: پھسلنے والی جگہ اور پھسلنے والی زمین۔ الـزَّلَل: (مص) پھسلنے کی جگہ (مذکر و مونث)، گناہوں کا ارتکاب کہا جاتا ہے۔ استغفر اللّٰہ من ذللی: یعنی میں اپنے گناہوں کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خواہاں ہوں۔ الـزَّلَّة جمع زَلَّات: گناہ، خطا، ایک دفعہ گرنا۔ زَلّ کا اسم مرۃ۔ الـزِّلَّة واحد زِلّ: صاف پتھر۔ مـاءٌ زَلُـولٌ و زُلَازِل: شیریں اور صاف پانی جو حلق سے تیزی سے گزر جائے۔ الزُّلَال: بہت پھسلنے والا۔ مـاءٌ زُلال: دیکھو۔ مـا زَلُول الـزلیل: ہلکی رفتار۔ مـاءٌ زَلِیل: دیکھو ماءٌ زبولی الأزَل م زلاء جمع زُلّ: ہلکے سرین والا۔ تیز رفتار۔ قوس زَلَّاء: کمان جس سے تیر بڑی تیزی سے نکلے۔ المَزَلَّة والمَزِلَّة جمع مَزَال: پھسلنے کی جگہ۔

۲۔ اَزَلَّ هُ الی القوم: کو قوم کے روبرو پیش کرنا کہا جاتا ہے۔ اَزَلَّ الیہ نعمةً: پر احسان کرنا اور اسے نعمت عطا کرنا۔ — اَزَلَّ الیـه من حقه شیئاً: یعنی اس نے اسے اپنے حق سے کوئی چیز عطا کی۔ الـزَّلَّة: احسان۔ الـزَّلَّة جمع زلّات: ولیمہ، طعام ولیمہ، خوراک جو دوست یا رشتہ دار کے دسترخوان سے اٹھائی جائے۔ المُزَلِّل: بہت نیکی یا سلوک کرنے والا۔

۳۔ زَلَّ ـ زُلُولاً الدرهمُ: درہم کا کم وزن ہونا، صفت زال جمع زوال۔ کہا جاتا ہے۔ دراهمُ زَوالٌ: کم وزن درہم۔ الـزَّلَل: کہا جاتا ہے۔ فی میزانه زَلَلٌ: اس کے ترازو میں کمی ہے۔

۴۔ الزُّلَّة: بوسہ۔ الزلیل (ط): فالودہ۔

۵۔ زَلْـزَلَ زَلْـزَلَةً وزلـزالاً و زَلْـزَالاً و زُلْـزالاً اللّٰهُ الارضَ: اللہ کا زمین کو ہلانا، بھونچال لانا۔ و۔ هُ: کو خوف زدہ کرنا، ڈرانا۔ تـزلـزلـتِ الارض: زمین کا کانپنا، ہلنا، زمین میں زلزلہ آنا۔ و۔ ت نفسُهُ: جان کا موت کے وقت سینہ میں بے کل ہونا یا بے چین ہونا۔ الـزلـزلَة: (مص) جمع زَلازِل: بھونچال، زلزلہ۔ الـزلازِل: مصائب، وخطرات۔ الـزُّلْزُول: لڑائی جھگڑا۔

۶۔ زَلْـزَلَ زَلْـزَلَةً وزلـزالاً و زَلْـزالاً و زُلْـزالاً الابلَ: اونٹوں کو سختی سے ہانکنا۔ الزُّلْزُل: ماہر نقارچی۔ غلام زُلْـزُلٌ: سبک جوان۔ الـزُّلـزُول: خوش طبع و سبک، سیکی۔

۷۔ الزَّلْزِل: سامان خانہ، اسباب، فرنیچر۔

○ زَلَّ ـ زَلّاً و زَلَّ ـ زَلَلاً: پھسل پڑنا، غلطی کرنا۔ — عن: کو متاثر کرنے میں ناکام رہنا (برائی وغیرہ کا) اَزَلَّ هُ: کو پھسلانا، کے ٹھوکر کھانے کا باعث بننا۔ زَلّ: زَلَل کی ایک قسم۔ زَلَّة: پھسلنا، رپٹنا، لغزش، فروگزاشت۔ زَلَّةُ لسـان: زبان کی لغزش۔ زَلَـل: پھسلنا، رپٹنا، لغزش، غلطی، فروگذاشت۔ زُلال: ٹھنڈا پانی۔ زُلالُ البَیْض: انڈے کی سفیدی۔ زُلالِی: انڈے کی سفیدی کا۔ زُلالیـات: پروٹین، الحمیات۔ مـواد زلالیة: پروٹین، الحمیات۔

زلأ: اِزْلَأَمّ: دیکھو زلم۔

زلب: زَلِبَ ـ زَلَباً به: کسی کے ساتھ چمٹنا اور جدا نہ ہونا۔ الزَّلْبَة: لقمہ۔ الزلابِیَة: جلیبی۔

زلج: ۱۔ زَلَجَ ـ زَلْجاً و زَلِیجاً و زَلَجَاناً: تیزی سے چلنا۔ و۔ ـ زُلُجاً الباب: دروازہ بند کر کے چٹخنی لگانا۔ و۔ زَلَـجانا فلاناً: کے آگے ہونا۔ زَلِجَ ـ زُلُوجاً: پھسلنا۔ و۔ الکلام من فیه: بات کا منہ سے نکل جانا۔ و۔ الماء عن الحنجرة: پانی کا حلق کی نالی سے پیٹ میں اتر جانا۔ زَلَّجَ الکلامَ: بات کا لوگوں میں پھیلانا، افشا کرنا۔ عیشَـهُ: تھوڑی سی روزی پر زندگی گزارنا۔ اَزْلَجَ البابَ: دروازہ کو چٹخنی لگا کر بند کرنا۔ تَـزَلَّجَ: پھسلنا۔ و۔ الشیءُ: چیز کا پھسلنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَـزَلَّجَ السهـمُ عن القوس: یعنی تیر کمان سے پھسل کر نکل گیا۔ و۔ تـزلّج علی الجلید وغیرہ: برف وغیرہ پر پھسلنا۔ سکیٹنگ کرنا۔ و۔ النبیذَ: نبیذ پینے پر اصرار کرنا۔ مکـانٌ زَلْـجٌ و زَلَجٌ و زَلِیجٌ: پھسلنی جگہ۔ الـزالِجُ (فا): مصائب سے نجات پانے والا۔ بلا نوش۔ سهـمٌ زالِجٌ: زمین سے رگڑ کھا کر جانے والا تیر۔ الـزلُوج: تیز رو۔ سهـمٌ زَلُوجٌ: کمان سے پھسلنے والا تیر۔ قِدْحٌ زَلُوجٌ: ہاتھ سے پھسل جانے والا پیالہ۔ عقبةٌ زَلُوجٌ: دور اور لمبی گھاٹی۔ الـزُّلَج: چکنی چٹانیں۔ نـاقةٌ زَلَجَی و زَلِیجَة: تیز رفتار اونٹنی۔ الزلاج والمِزلاج: چٹخنی۔ زَلَّاجَة: کھڑاؤں (Skate) المِزلج جمع مَزالِج: کفشی پہیے Skate۔

۲۔ الـمُـزَلَّـج: تھوڑا، قلیل، بخیل، کنجوس، قوم میں اجنبی شخص، ہر چیز کا ردی حصہ، بے مروت۔

○ زَلَجَ ـ زُلُوجاً و زَلِجَ ـ: پھسلنا، پھسلتے چلے جانا۔ تَزَلَّجَ: پھسلنا، پھسلتے چلے جانا۔ علی الثلج: برف پر برفانی کھڑاؤں سے پھسلنا۔ سکیٹنگ کرنا۔ اِنْزَلَجَ بمعنی تَزَلَّجَ۔ زَلُجَ: پھسلنی، رپٹنی۔ زَلِیج: پھسلنی، رپٹنی۔ مِزْلَج جمع مَزالِج: سکیٹ، برفانی کھڑاؤں۔ مِزلاج جمع مزالیج: چٹخنی، کھٹکا۔ زُلَیج و زُلَیجِی: زیبا کشی

زلح: ۱۔ زَلَحَ ـ زَلْحاً و تَزَلَّحَ الشیءَ: کو چکھنا۔ الزَّلَح: باطل، کہتے ہیں۔ امرٌ زَلَحٌ: باطل بات۔

۲۔ تَزَلْحَفَ عنهُ: سے پھسلنا۔

۳۔ زَلْحَفَهُ فتزلحف و ازْلَحَفَّ: کو علیحدہ کرنا اور اس کا علیحدہ ہوجانا۔ الزُّلْحَف: (ح) کچھوا (سُلحفاة کی بگڑی ہوئی شکل)

زلخ: ۱۔ زَلَخَ ـ زَلْخاناً و زَلَخاناً الرجلُ: چلنے میں آگے بڑھنا۔ و۔ ت رِجلُهُ: کے پاؤں پھسلنا۔ زَلَخَ هُ: کو ملائم کرنا، چکنا کرنا۔ اَزْلَخَ الباب: دروازہ کو چٹخنی لگا کر بند کرنا۔ تَـزَلَّخَ: پھسلنا۔ مـکـانٌ زَلْخٌ و زَلَخٌ: پھسلنی جگہ۔ الزَّلُوخ: تیز رو۔ بئرٌ زَلُوخٌ: پھسلنا کنواں۔ الزُّلْخَة: وہ جگہ جہاں سے بچے پھسلتے ہیں۔ المِزلاخ: چٹخنی۔

۲۔ زَلَخَ ـ زَلْخـاً فلاناً بالرمح: کو نیزہ بھونکنا۔ و۔ رأسَهُ: کا سر زخمی کرنا۔

۳۔ زَلِخَ ـ زَلَخاً: فربہ ہونا۔

زلز: زَلَزَ ـ زَلْزاً: بے قرار ہونا۔ الزَّلَز والزَلِز: خانگی اسباب، فرنیچر، آنے کا راستہ۔

○ زَلْـزَلَ هُ/ ه: کو زور زور سے ہلانا، ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا، لرزانا۔ زُلْزِلَ: تھرتھرانا، ٹھوکر کھانا۔ تَـزَلْزَلَ: زمین میں بھونچال آنا، زلزلہ آنا۔ زَلْزَلَة جمع زلازل: بھونچال، زلزلہ۔ زَلْزال و زِلْزال: سخت صدمہ، صدمہ، ہل چل، کھلبلی، بھونچال، زلزلہ۔

○ زَلَطَ ـُ زَلْطاً ه: کو نگلنا، ہڑپ کرنا۔ زَلَّطَ ه: کے کپڑے اتارنا۔ زُلْط: برہنگی، عریانی، ننگا ہونا۔ زَلَط واحد زلطة: بجری، کنکر، سنگریزے، سڑک کے لئے کوٹے ہوئے پتھر۔

زلع: ۱۔ زَلَعَ ـ زَلْعاً الشیءَ: کو دھوکے سے چھین لینا۔ و۔ الشجرةَ: درخت کاٹنا۔ و۔ الماءَ من البئر: کنویں سے پانی نکالنا۔ آپ کہتے ہیں۔ زَلَعتُ له من مالی زَلْعَةً: میں نے اسے اپنے مال میں سے ایک حصہ دیا۔ اَزْلَعَ هُ فی الشیءِ: کو کسی چیز کا لالچ دلانا۔ تَـزَلَّعَ ریشُهُ: کے پروں کا جھڑنا۔ ازْدَلَعَ الشیءَ: کو دھوکے سے چھین لینا۔ — حقَّه: کا حق کاٹ لینا۔

۲۔ زَلَعَ ـ زَلْعاً رأسَهُ: کا سر پھاڑ ڈالنا۔ و۔ رجلَهُ: پاؤں جلانا۔ زَلِعَ ـ زَلَعاً و زُلُوعاً و تَزَلَّعَت قَدَمُهُ: پاؤں کا اوپر سے پھٹنا۔ و۔ ت کفُّهُ: ہاتھ کا اوپر سے پھٹنا۔ الـزَّلُوع: پھٹی ہوئی ایڑیوں والا۔ المُزَلَّع: پھٹے ہوئے پاؤں والا۔

۳۔ زَلَعَ ـ زُلُوعاً تِ الشمسُ: سورج کا طلوع ہونا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نکلنا۔و۔ تِ النارُ:آگ کا بلند ہونا۔
۴۔ زَلِعَ -زَلَعاً و زُلُوعًا و تَزَلَّع الجرحُ :زخم کا بگڑ جانا،خراب ہونا۔ الزَلَعة :خراب زخم۔
۵۔الزَيْلَع :چھوٹی کوڑیوں کی ایک قسم۔
○ زُلَعَة جمع زِلع:ایک قسم کا لمبا مٹی کا مرتبان۔
○ زُلْعُوم جمع زَلاعِيم :گلا،حلقوم۔
زلغ:ا۔ زَلَغَ -زُلُوغًا النجمُ :ستارہ کا نکلنا۔و۔ النارُ: آگ کا بلند ہونا۔
۲۔ تَزَلَّغ تْ رِجْلُهُ : کا پاؤں پھٹنا۔(تزلعت کہنا افضل ہے)
۳۔ اِزْلَغَبَّ الفرخُ :چوزے کے پر نکل آنا۔و۔ الشَعَرُ: مونڈنے کے بعد بال پھر اُگ آنا۔
زلف:ا۔ زَلَفَ -زُلْفاً و زَلَفاً و زَلِيفاً :آگے ہونا اور قریب ہونا۔و۔ زَلَفَ الشيءَ:کو آگے کرنا پیش کرنا۔ و۔ في الكلام :بات میں اضافہ کرنا۔ اَزْلَفَ هُ: کو قریب کرنا ۔ الاشياءَ: کو اکٹھا کرنا۔و۔ الدليلُ القومَ:رہبر کا قوم کو آگے بڑھنے پر ابھارنا اور مرحلہ وار بے قرار کرنا۔ تَزَلَّفَ واِزْدَلَفَ :آگے ہونا قریب ہونا۔ الزُلْف و الزَلَف و الزُلْفى : نزدیکی،درجہ، مرتبہ،منزلت۔ الزُلْفَة جمع زُلَف و زُلَفَات و زُلُفَات و زُلْفَات:درجہ،منزلت،نزدیکی،رات کا ایک حصہ۔ الزُلَف :وہ گھڑیاں جن میں دن اور رات آپس میں ملتے ہیں۔رات اور دن ملنے کے اوقات۔ العقبة الزَلُوف : دور کی گھاٹی۔ المَزْلَفة جمع مَزَالِف: گاؤں جو کشت زار اور بیابان کے درمیان ہو۔ المَزالِف :مرحلے۔
۲۔ الزِلف : باغ۔ الزُلْفَة جمع زُلَف و زُلَفَات و زُلُفات وزُلْفات :بڑا پیالہ۔ الزَلَفَة جمع زَلَف: بھرا ہوا تالاب یا حوض،بڑا پیالہ،کپڑے دھونے کا طشت، سخت یا جھاڑو دی ہوئی زمین،چکنا پتھر،باغ۔(ح) سیپی۔
○ زَلَفَ -زُلْفًا و زَلْفًا و زَلِيفًا اِلى: کسی شخص یا چیز کے پاس جانا،کی طرف بڑھنا،قریب ہونا۔ زَلَّفَ ه في : کے بارے میں خبر وغیرہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تَزَلَّفَ اِلى: کی خوشامد کرنا۔چاپلوسی کرنا۔ تزلَّف ل بھی اسی معنی میں ہے۔ زَلَف: غلامانہ خوشامد یا چاپلوسی،کاسہ لیسی،جوتیاں چاٹنا۔ زُلْفَة و زُلْفى: غلامانہ خوشامد یا چاپلوسی،کاسہ لیسی،جوتیاں چاٹنا۔ مُتَزَلِّف:خوشامدی،چاپلوسی،ٹوڈی،جوتیاں چاٹنے والا، کاسہ لیس۔
زلق: زَلَقَ -زَلْقاً هُ :کو پھسلانا۔و۔ راسَهُ :کا سر مونڈنا۔ و۔ هُ عن مكانِه :کو جگہ سے دور کرنا اور ہٹانا۔و۔ ـُ وزَلِقَ -زَلَقاً تِ القدمُ : پاؤں پھسلنا،جمانہ رہنا۔ و۔ بمكانِه: کسی جگہ سے اکتا کر ہٹ جانا۔ زَلَّقَ هُ:کو پھسلانا۔و۔ الموضعَ :جگہ کو پھسلنی بنانا۔و۔ راسَهُ: کا سر مونڈنا۔و۔ بدنَهُ :جسم کو تیل مل کر چکنا کرنا۔ ـ هُ ببصره:پر تیز نظر ڈالنا،کو غور سے دیکھنا۔و۔ عن مكانه: کو جگہ سے دور کرنا اور ہٹانا۔ اَزْلَقَ هُ:کو پھسلانا۔و۔ راسَهُ:کا سر مونڈنا۔و۔ ت الفرسُ :گھوڑی کا وقت سے پہلے بچہ گرانا۔و۔ هُ ببصره: پر تیز غصہ کی نظر ڈالنا، کو غور سے دیکھنا۔ عن مكانه: کو جگہ سے دور کرنا اور ہٹانا۔ اَزْلَقَ هُ:کو پھسلانا ـ راسَهُ:سر مونڈنا۔ ـ ت الفرسُ:گھوڑی کا وقت سے پہلے بچہ گرانا۔ ـ هُ عن مكانه :کو کسی جگہ سے ہٹانا،دور کرنا۔ ـ هُ ببصره :کی طرف غصہ سے دیکھنا۔کہا جاتا ہے۔ انهم يزْلقونكَ بابصارهم :یعنی وہ تیری طرف اس طرح دیکھتے ہیں،جیسے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تَزَلَّقَ :ایسا سنورنا کہ چہرے میں چمک دمک نظر آئے۔ الزَلْق و الزَلّاقة :پھسلنی جگہ جس پر پاؤں نہ ٹکے۔ الزَلَقَ : پھسلنی جگہ۔ اُرضٌ زَلَقٌ:ہموار زمین۔ الزَلِق : پھسلن کی جگہ،جلد غصہ میں آنے والا ۔ الزَلَقَة :ہموار چٹان،چکنی صاف چٹان،آئینہ۔ ناقةٌ زَلُوق :تیز رو اونٹنی۔عقبةٌ زَلُوقٌ :دور دراز گھاٹی۔ الزليق :اسقاط کا بچہ۔ الاَزْلَق :نئے اُگے ہوئے بالوں والا۔ الزُلَيْق واحد زُلَيْقَة: ایک قسم کا شفتالو: (ح) ایک قسم کی مچھلی جو ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ المَزْلَق و المَزْلَقَة :پھسلنے کی جگہ۔ المِزلاق: چٹخنی (ح) قبل از وقت بچہ گرانے والی گھوڑی۔
○ زَلِقَ -زَلَقًا و زَلَقَ -زَلْقًا :پھسلنا،رپٹنا، زَلَّقَ ه:کو پھسلنی بنانا۔ ـ ه في :کو میں سرکانا۔پھسلانا،رپٹانا۔ اَزْلَقَ ه :کو پھسلانا۔ اَزْلَقَهُ ببصره:کی طرف سختی یا ناپسندیدگی سے دیکھنا۔ تَزَلَّقَ واِنْزَلَقَ :پھسلنا۔ رپٹنا ۔ الى :میں پھسل جانا۔ ـ :پھسلنا،سکی پر پھسلنا، سکیٹنگ کرنا۔ اِنْزَلَقَ عن :کے ہاتھ یا چیز سے پھسل جانا۔ زَلْقَة :پھسلنا،رپٹنا،ایک طرف پھسلنا۔ زَلِق: پھسلنی۔ زَلّاقة:پھسلاہٹ۔ زَلّاقة جمع زلّاقات: برف گاڑی،برف گاڑی کی ڈھلان،برف گاڑی کا راستہ،سڑک کی نالی۔ مَزْلَقَان :سامان لادنے کی) چڑھائی،موٹر کا راستہ،رسائی کی سڑک۔ مِزْلَق: سکیٹ مِزْلَقَان :سکیٹوں کا جوڑا۔ مِزْلَقَة جمع مَزَالِق: برف گاڑی۔
زلم:ا۔ زَلَمَ -زُلْمًا:خطا کرنا۔
۲۔ زَلَمَ -زُلْمًا الاناءَ :برتن کو بھرنا۔
۳۔ زَلَمَ -زُلْمًا الانفَ : ناک کاٹنا۔ اِزدَلَمَ الشيءَ:کوئی چیز کاٹنا۔جڑ سے اکھیڑنا۔ الزَلَمة :بھیڑ بکری کے کان کا کٹا ہوا حصہ جو لٹکتا رہتا ہے۔ الاَزْلَم م زَلْمَاء : اونٹ بکری وغیرہ جس کے کان کا کچھ حصہ کاٹا گیا ہو،کن کٹا۔ المُزَلَّم :بمعنی الازلم یعنی کن کٹا۔
۴۔ زَلَمَ -زُلْمًا العطاءَ:بخشش کم دینا۔ زَلَّمَ العطاءَ: بخشش کم دینا۔و۔ غذاءَ ه:کو بری خوراک دینا۔
۵۔ زَلَّم هُ :کو نرم کرنا،ہموار کرنا۔ و۔ الرحى :چکی گھمانا اور کناروں سے لینا۔ الزَلَم جمع ازلام:بے پر کا تیر فال لینے کے تیر جن سے جاہلیت میں عرب تقسیم کیا کرتے تھے۔ کھُریا اس کے پیچھے کا حصہ۔ الزُلْمَة الزَلَمَةو الزَلَمة : شکل اور قد و قامت کہتے ہیں۔ هو العبد زُلْمةً :وہ غلام کے نقش قدم پر چلتا ہے اور غلام جیسا معلوم دیتا ہے۔ المُزَلَّم :سبک خوش طبع، پستہ قد۔و۔ والزَلِيم من السهام :عمدہ ساخت کا تیز۔
۶۔ ازلَامَّ ازلِئماماً ت الضحى :چاشت کے وقت کا روشن ہونا۔و۔ الشيءُ:کا سیدھا کھڑا ہونا۔و۔ القومُ: قوم کا جلد کوچ کر جانا۔
۷۔ الزَلَم : (ن) ایک پودا جس کا نہ بیج ہوتا ہے نہ پھول اور اس کے زیر زمین تنوں میں چوڑا اور چکنائی والا دانہ ہوتا ہے جسے حب العزیز کہا جاتا ہے۔ الزَلَمة : مرد پیدل چلنے والا۔ الزُلْمَاءُ:(ج) شکرہ کی مادہ، پہاڑی بکری۔ زُلُومةُ الابريق(عند العامة) جاہلی زبان میں،جگ کا چھوٹا دہانہ جبکہ فصیح البلبل ہے۔
○ زُلُومَة وزَلُّومَة جمع زَلالِيم: (ہاتھی کا) سونڈ۔
زم :ا۔ زَمَّ -زَمًّا هُ:کو کس کر باندھنا۔و۔ الجمالَ :اونٹوں کو نکیل ڈالنا۔و۔ النعلَ :جوتے میں تسمہ ڈالنا۔ زَمَّمَ الجمالَ :اونٹوں کو نکیل ڈالنا۔ اَزَمَّ النعَل :جوتے میں تسمہ ڈالنا۔ اِنْزَمَّ :کس کر بندھنا،بندھنا۔ الزمام جمع أزِمَّة :جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔باگ، لگام،نکیل،مہار۔ زمامُ قَومِه :اپنی قوم کا پیشوا،چودھری زمام الامر :وہ چیز جس پر کام کا دارومدار ہو۔ القوا في يده زمام الاَمر : لوگوں نے کام کی باگ اس کے ہاتھ میں دیدی اور اسے مختار کل بنادیا۔ هو على زمام امره :وہ اپنے کام کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ هو يصّرف ازمّة الامور :اسے کام سرانجام دینے میں آزادی حاصل ہے۔ زمام النعل:جوتے کا تسمہ۔
۲۔ زَمَّ -زَمًّا البعيرُ بانفه :ناک میں تکلیف کی وجہ سے اونٹ کا سر اٹھائے پرکھنا۔ الرجلُ براسه :آدمی کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سر اٹھانا۔ و۔ بانفِه: تکبر کرنا۔ و۔ القومَ: چلنے میں قوم سے آگے ہونا یا رفتار میں قوم سے آگے بڑھ جانا۔ و۔ الذِئبُ السخلةَ: بھیڑیے کا بکری کے بچے کو سر اونچا کر کے لے جانا۔ و۔ زُمُومَاتِ نابُ البعیر: اونٹ کے دانت پھوٹنا۔ زَامَ مُزَامَةً: تکبر کرنا۔ زامَمتُ فلانًا: میں نے فلاں کا مقابلہ کیا۔ اِزْدَمَ: تکبر سے سر اونچا کرنا و۔ الذئبُ السخلةَ: بھیڑیے کا بکری کے بچہ کو سر اونچا کر کے لے جانا۔ الزُمَّام: اونچی گھاس۔

۳۔ زَمَ ـ زَمًّا القربةَ: مشک بھرنا۔ و۔ زُمُومَاتِ القربةُ: مشک کا بھر جانا۔

۴۔ زَمَ ـ زُمِيمًا الزنبورُ: بھڑ کا بھنبھنانا۔

۵۔ رجُلٌ زام جمع زُمَّم گھبرانے والا آدمی۔ الزَمَمُ: کہا جاتا ہے۔ داری من داره زَمَمٌ: میرا گھر اس کے گھر کے قریب ہے۔ وامرُ القوم زَمَمٌ: قوم کا معاملہ قریب قریب یکساں ہے۔ وجهي زَمَمَ بيته: میرا چہرہ اس کے گھر کے مقابل ہے۔ الازميم: مہینے کے آخر کا چاند۔

۶۔ زَمْزَمَ زمْزَمَةً الشيُّ: دور سے آواز کی گنگناہٹ سنائی دینا۔ و۔ تِ النارُ: آگ کے بھڑکنے کی آواز سنائی دینا۔ و۔ المغنّي: گویے کا سُر سے گانا۔ گلوکار کا ترنم سے گانا۔ و۔ العُلوجُ: کھاتے وقت کافروں کا عجمی زبان میں بات کرنا اس طرح کہ بات کرتے ہوئے خاموش رہنا زبان اور ہونٹ کا استعمال نہ کرنا مگر اپنی ناک کی جڑ اور حلق میں ایسی آواز چلانا کہ ایک دوسرے کی بات سمجھ جائے۔ و۔ الکاسَ: پیالہ میں جو کچھ ہو اسے پی جانا۔ تزمزم الجملُ: اونٹ کا بڑ بڑانا۔ و۔ ت به شفتاه: ہونٹوں کا ہلنا۔ الزَمْزَمَة: (مص) جمع زَمازِم: بادل کی گرج، آگ کے بھڑکنے کی آواز، شیر کی دھاڑ۔

۷۔ زَمْزَمَهُ: بکھری ہوئی چیز کا جمع کرنا۔ و۔ الشيءَ: کو محفوظ کر لینا، کو بچانا۔

۸۔ ماءٌ زُمْزم و زمزَام و زَمْزَمٌ و زمازِمٌ: بہت سا پانی، نمکین اور میٹھے کے درمیان کا پانی۔ زَمْزَمُ: کعبہ شریف کے قریب ایک کنواں۔ الزِمْزِمَة جمع زَمازِم وزِمْزِم: اونٹوں اور لوگوں کا ایک گروہ۔ الزُمْزُوم و الزِمْزِيم من الابل جمع زَمازِيم: بہترین اونٹ، عمدہ اونٹ، اونٹوں کا ریوڑ یا گلہ۔

○ زَمَ ــــ زَمًّا ہ: کو موڑنا، باندھنا، کسنا، کس کر لگانا۔ زَمَّ بانفِهِ: تک چڑھا ہونا۔ زَمَّمَ ہ: اونٹ کو لگام دینا۔ زِمام جمع اَزِمَّة: اونٹ کی نکیل۔ لگام، باگ، رسا، روزنامچہ، رجسٹر بہی، میدان، زمین۔ بِزِمامِهِ: کے زیر ہدایت، کی زیر نگرانی، زِمام الأمر: اقتدار کی باگیں۔ قبض علی ازمة الامور: طاقت و اقتدار کی لگام اپنے ہاتھ میں لینا، اقتدار کا مالک ہونا، تولّی زِمام الحكم: اقتدار ہاتھ میں لینا۔

زمت: زَمُتَ ـ زَمَاتَةً و تزمَّت: معزز اور باوقار ہونا۔ زَمِيتٌ جمع زُمَتاء و زِمِّيت: معزز اور باوقار۔ فلانٌ اَزْمتُ الناسِ: فلاں شخص سب سے زیادہ باوقار ہے۔ زَمَتَ ـ زَمْتًا هُ: کا گلا گھونٹنا۔

○ تَزَمّت: متانت، سنجیدگی، متزمت: متین، سنجیدہ، تنگ نظر۔

زمج: ۱۔ زَمَجَ ـ زَمْجًا القربةَ: مشک بھرنا۔ و۔ علیهم: کی دعوت میں بلا اجازت و دعوت نامہ آ کر کھانا۔ بن بلائے مہمان بننا۔ الزامج: کہتے ہیں۔ اخذهُ بزامجه: اسے پورے کا پورا لے لیا۔

۲۔ زَمِجَ زَمَجًا: غضبناک ہونا۔ زَمِجٌ: غضبناک۔ المُزْمَئِج: غضبناک۔

۳۔ الزُمَّج جمع زَمامِيج: (ح) سرخ رنگ کا ایک شکاری پرندہ۔ زُمَّجُ الماء: (ح) ایک مچھلی خور آبی پرندہ۔ الزِمِجّي: پرندہ کی دم کی جڑ۔ زِمِجَّة الظليم: شتر مرغ کی چونچ۔

۴۔ زَمْجَرَ زَمْجَرَةً: بہت شور مچانا۔ و۔ و تَزَمْجَر الاسدُ: شیر کا بار بار دھاڑنا۔ اِزْمَجَرَّ: آواز کرنا۔ الزَمْجَرة: (مص) جمع زماجر و زماجير: بانسری۔ زَمْجَرة كلِ شيءٍ: ہر چیز کی آواز۔

○ زَمْجَرَ زُجَرَةً: جھاڑ جھپاڑ کرنا، طیش میں آنا، گھن گرج میں ہونا۔

زمح: الزُمَّح والزُومَح: کمینہ، پستہ قد، بدشکل، سیاہ فام، بدصورت، شرپسند۔ الرَامِح: پھوڑا۔

زمخ: ۱۔ زَمَخَ ـ زَمْخًا: تکبر کرنا۔ زامخ جمع زُمَّخ: متکبر۔ عقبه زَمَخ و زَمُوخٌ: دور افتادہ سخت گھاٹی۔

۲۔ زَمْخَرَ النمرُ: چیتے کا غضبناک ہو کر دھاڑنا۔ و۔ الصوتُ: آواز کا تیز ہونا۔ اِزْمَخَرَّ: تیز ہونا، شدید ہونا۔ تَزَمْخَرَ النمرَ: چیتے کا غصہ میں دھاڑنا۔

۳۔ زَمْخَرَ العشبُ: گھاس کا شگوفہ والا ہونا اور بڑھنا یعنی اونچا ہونا۔ الزَمْخَر: گنجان و گھنا درخت، بڑی بانسری۔ و۔ الزَمْخَرِيّ: کھوکھلی ہڈی۔ رجُل زُمْخَرٌ: بلند شان مرد۔ زَمْخَرة الشباب: بھرپور جوانی۔ و۔ الشجرِ: درخت کا گنجان اور گھنا ہونا۔

زمر: ۱۔ زَمَرَ ـ زَمْرًا و زَمِيرًا: بانسری بجانا۔ و۔ بالحديث: [illegible] پھیلانا [illegible] مرغ کا آواز کرنا۔ زَمَّر: بانسری بجانا۔ الزَمْر (مص) والزَمَر جمع زُمُور: آواز۔ الزِمِرم زَمِرَة: بانسری نواز۔ غناءٌ زَمِر: اچھا راگ۔ الزِمَار (مص): شتر مرغ کی آواز۔ الزِمَارة: بانسری نواز کا پیشہ۔ الزَمَّار: بانسری نواز۔ الزَمَّارة (مو) بانسری۔ غناءٌ زَمِير: اچھا راگ۔ المِزمار جمع مزامير (مو): بانسری۔ المَزْمُور والمُزمُور جمع مَزَامِير: گیت۔

۲۔ زَمِرَ ـ زَمَرًا: تھوڑے بالوں والا ہونا، بے مروت ہونا۔ و۔ تِ الشاةُ: تھوڑی اون والی ہونا (بکری کا) اِسْتَزْمَرَ الرجلُ عند الهوان: ذلت کی وجہ سے منقبض ہونا۔ الزَمِرم زَمِرة: تھوڑے بالوں یا اون والا۔ بے مروت۔ عطيّة زَمِرة: تھوڑی بخشش۔ الزمارة والزُمُورَة: بے مروتی۔ الزمير جمع زِمَار: پستہ قد۔ الزِمِّير و الزَمِّير (ح) ایک قسم کی مچھلی۔

۳۔ زَمَرَ ـ زَمَرانًا الظبیُ: ہرن کا ڈر کر بھاگنا۔ اِزْمَارَّ: غصہ سے سرخ آنکھوں والا ہونا۔

۴۔ زَمَرَ ـ زَمْرًا القربةَ: مشک بھرنا۔ زَمَّر القِربةَ: مشک بھرنا۔

۵۔ زَمَرَ ـ زَمْرًا فلانًا بفلانٍ: کو اس کے ذریعے اکسانا، بھڑکانا۔ الزَمُور و الزَمِير: خوبصورت لڑکا۔ الزَوْم: خوبصورت لڑکا۔

۶۔ الزَمِر: بہت سخت۔ الزُمْرَة جمع زُمَر: جماعت، گروہ، فوج۔ الزَوْمَر: جماعت، گروہ، ٹولہ۔

۷۔ الزُمُرُّدُ والزُمُرُّذ: واحد زُمُرّدة: ایک گہرے سبز رنگ کا قیمتی پتھر۔

○ زَمَرَ ـِ زَمْرًا و زِمرًا: بانسری بجانا، زَمَّر: بانسری بجانا، زَمْر: باجا بجانا۔ زَمْر جمع زمُور: لغوزہ جیسا باجا، موٹر وغیرہ کا ہارن، بھونپو۔ زُمْرَة جمع زُمَر: فوجی دستہ۔ گروہ۔ زُمْرَة دموية: بلڈ گروپ۔ زِمّار: باجا بجانے والا، بانسری بجانے والا، نے نواز۔ زَمّارة و زُمّارة جمع زمامیر: الغوزہ جیسا باجا۔ سائرن۔ زَمارةُ الإنذار: تنبیہی سائرن۔ مِزْمار: الغوزہ جیسا باجا۔ مَزْمُور جمع مَزامیر: ترانہ حمد۔

○ اِزْمِير: ازمیر، سمرنا، (مغربی ترکیا کا شہر اور بندرگاہ)۔

زمز: زَمْزَرَ الوعاءَ: برتن کو اچھی طرح بھرنے کے لئے ہلانا۔

زمع: ۱۔ زَمِعَ ـ زَمَعًا منه: حیران ہونا، خوف سے مبہوت ہونا۔ الزَمَع (مص) جمع ازماع: کام شروع کرنے پر طاری ہونے والی کپکپی۔ بے قراری۔ الاَزْمَع جمع ازامع: ناپسندیدہ امر۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ زَمَعَ ۔زَمْعاً و زَمَعَاناً الارنبُ :خرگوش کا تیز دوڑنا، آہستہ آہستہ چلنا (ضد) اَزْمَعَ تِ الارنبُ خرگوش کا ہلکا پھلکا ہونا اور دوڑنا۔ الزَمَع (مص) جمع ازماع : رذیل لوگ (کہتے ہیں۔ ھو من الرَعاع والزَمَعَ وہ رذیل لوگوں میں سے ہے۔) انگلیوں کی زیادتی۔ الزَمَعَةُ جمع زَمَع و زِماع ہرن یا بکری وغیرہ کے پاؤں کے پچھلے رخ میں لٹکے ہوئے بال۔ الزَمِعِیُّ : خسیس۔ رجُلٌ اَزْمَعُ : زائد انگلیوں والا۔ الزَمِیْع جمع زُمَعاء و الزُمُوع تیز رو۔

۳۔ زَمَّعَ الامرو علیہ وبہٖ پختہ عزم کے ساتھ کسی بات پر جمارہنا۔ اَزْمَعَ بمعنی زَمَّعَ، الزَمَع، والزَماع : پختہ ارادہ، عزم مصمم۔ المُزْمَع وہ شخص جو اپنی ضروریات میں چست نہ ہو۔ الزَمِیْع جمع زُمَعاء : پختہ عزم بہادر، اچھی رائے والا۔ الزَمِعِیّ جلد غضب میں آجانیوالا۔ الاَزْمَع جمع اَزامِع ہوشیار، دانا، چالاک۔ المُزمِع کسی امر پر پختہ عزم کرنے والا۔

۴۔ زَمَّعَ الزنبورُ بھڑ کا بھنبھنانا۔ الزُمَّع (ح) ڈنک کے بغیر بھڑ۔

۵۔ اَزْمَعَ الکرمُ انگور کی بیل کا گرہ دار اور کھردرا ہونا۔ الزَمَعُ جمع اَزْماع انگور کے خوشے نکلنے کی جگہوں پر گرہیں۔ چھوٹی تنگ نالیاں، کمزور سیلاب۔ الزُمْعَةُ : قطعہ، ٹکڑا کہتے ہیں۔ ارض فیھا زُمَعٌ من النبت : زمین میں گھاس کا قطعہ ہے۔ الزَمَعَةُ : چھوٹا ٹیلہ۔

○ زَمَعَ و اَزْمَعَ ہ و علی کا ارادہ کرلینا یا فیصلہ یا تہیہ کرلینا، کا پکا ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا۔ مُزْمِع پکا ارادہ کئے ہوئے، فیصلہ یا تہیہ کئے ہوئے۔ مُزْمَع و مزمع علیہ فیصلہ کیا ہوا، قریب، سر پر کھڑا، آنے والا، عنقریب ہونے والا۔ مستقبل کا، آئندہ کا۔ المؤتمر المُزْمَع عقدُہٗ فی کانفرنس جو فلاں تاریخ کو منعقد کی جائے گی۔

زمق : زَمَقَ ۔زَمْقاً القفل تالا کھولنا۔ و۔ اللحیۃَ : داڑھی نوچنا۔ اللحیۃ الزمیقۃ والمزموقۃ نوچی ہوئی داڑھی۔ الزَمَقَۃ کہتے ہیں۔ ما اغنی عنہ زَمَقَۃً اس نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔

زمک : ۱۔ زَمَكَ ۔زُمْكاً چپ رہنا۔

۲۔ زَمِكَ ۔زَمَكاً ہ و علی اس نے اس کو بھڑکا کر جھجر پر سخت غضبناک کردیا۔ اِزْمَاكَ سخت غضبناک ہونا۔ الزَمَكُ : سخت غصہ۔ الزَمَكَةُ من الرجال جمع الزمکون جلد غضبناک ہونے والا، احمق۔

۳۔ زَمَكَ ۔زَمْكاً و زَمَكَ القربۃَ مشک بھرنا۔ الزَمَكُ ایک دوسرے میں گھس جانا۔ آپس میں گتھ جانا۔

۴۔ الزَمَکَۃ من الرجال جمع الزمکون پستہ قد۔ الزِمِکّی والزِمِكُّ پرندے کی دم یا اس کی جڑ۔

زمل ۱۔ زَمَلَ ۔زَمَالاً الاعرجُ لنگڑے کا ایک طرف جھکے ہوئے دوڑنا۔ ـــ ُ زُمْلاً و زَمَلاً و زَمَالاً و زَمَلانَاتِ الدابّۃُ جانور کا خوشی کی وجہ سے لنگڑاتے ہوئے چلنا۔

۲۔ زَمَلَ ۔زَمْلاً الرفیقَ : ساتھی کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھانا۔ و۔ الرجلَ کا پیچھا کرنا، کی پیروی کرنا۔ زَامَلَ الرفیقَ ساتھی کو محمل کے ایک طرف سوار کرنا۔ الزَمِلُ : ردیف، سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ الزَمَل والزَمَلَۃ والاَزْمَلَۃ بال بچے کہتے ہیں۔ تَرَكَ زَمَلاً و زَمَلَۃً و اَزْمَلَۃً اس نے اپنے پیچھے بال بچے چھوڑے۔ الزُمْلَۃ : ساتھی لوگ، جماعت۔ الزَمِیل ذو یف، ہم پیشہ۔ الاَزْمَل جمع اَزامِل و اَزامِیل تمام شئی کہتے ہیں۔ اخذ الشیءَ بِاَزْمَلِہٖ و بِاَزْمُلِہٖ اس نے ساری چیز لے لی۔ لہ عیال اَزْمَلَۃٌ بہت بال بچے دار ہے۔

۳۔ زَمَلَ ُ زَمْلاً الشیءَ (کو) اٹھانا۔ اِزْدَمَلَ الحِمْلَ بوجھ ایک دفعہ اٹھانا۔ الزِمْل بوجھ۔ الزامِلَۃ جمع زوامل : زامل کا مونث۔ اونٹ وغیرہ جو بار برداری کے کام آتا ہے۔ بار برداری کا جانور۔ لدو جانور۔ الازمیل مضبوط آدمی۔ المُزَمَّلَۃ : پانی ٹھنڈا کرنے کا گھڑا یا مٹکا۔

۴۔ زَمِلَ ۔زُمُولاتِ القوسُ کمان کا آواز کرنا۔ الاَزْمَل جمع اَزامِل و اَزامِیل مخلوط آواز۔ الاَزْمَلَۃ : کمان کی آواز۔ الاُزْمُولۃ والاِزْمَوْلَہ آواز کرنے والا پہاڑی بکرا یا ہرن وغیرہ۔

۵۔ زَمَّلَ الشیءَ کو چھپانا۔ و۔ الشیءَ بثوبہ او فی ثوبہ کو کپڑے میں لپیٹنا۔ تَزَمَّلَ و اِزَّمَّلَ و اِزْدَمَلَ بثوبہ کپڑے میں لپٹنا۔ الزَمِل والزُمَّل و الزُمَیل والزُمَیلۃ والزُمَّل والزُمّال و الزُمَّالۃ والزِمِّیل والزُمَیلۃ کمزور بزدل۔ الازمل : بزدل، کمزور۔ الازمیل کمزور۔ المزمَّل م المزمَّلۃ والمُتَزَمِّل کپڑوں میں لپٹا ہوا۔ (کوتاہی کرنے والے سے کنایہ ہے)

۶۔ الاِزْمیل موچی کی رانبی، چھینی، ہتھوڑا۔

○ زَامَلَ ہ کے ساتھ ہونا، کی معیت میں ہونا، کا ساتھی ہونا۔ ـــ ہ فی کا (کسی ارادہ) میں رفیق کار ہونا، ساجھی، شریک کار یا ہم صحبت ہونا۔ ـــ ہ کے ساتھ جانا، کا ہم رکاب یا ہمسفر ہونا، کے ہمراہ ہونا۔ تَزَامَلَ قریبی ساتھی، رفیق یا صاحب ہونا، قریبی ساتھی ہونا۔ زُمْلَۃ لوگوں کی، جماعت۔ زَمِیل جمع زُمَلاء : ساتھی، لنگوٹیا، یار غار، شریک کار، ہم صحبت، رفیق، صاحب، رفیق کار، رفیق یا شریک جرم زَمِیلَۃ جمع زَمِیلات زمیل کا مونث زَمَالۃ رفاقت، رفاقت کاری، ساتھ، دوستی، رکنیت۔ زَمَالۃ دِراسیۃ : وظیفہ، گزارہ الاؤنس۔ اِزْمِیل جمع اَزامیل تہانی، بسولی۔

زمن ۱۔ زَمِنَ ۔زَمَناً و زُمْنَۃً بیکار ہونا، اپاہج ہونا۔ اَزْمَنَہُ اللّٰہُ اللہ کا کسی کو لنجے پن میں مبتلا کرنا۔ الزمانۃ : آفت، بعض اعضاء کا نہ ہونا، قویٰ کا بیکار ہونا، محبت۔ الزَمِن جمع زَمِنُون والزَمِین جمع زَمْنیٰ و زَمَنَۃ اپاہج معطل اعضاء والا، اپاہج کہتے ہیں۔ فلانٌ زَمِنُ الرغبۃ : وہ کمزور خواہش والا ہے۔

۲۔ اَزْمَنَ الشیءُ دیر تک باقی رہنا۔ کہتے ہیں۔ ازمن عنی عطاؤك تمہاری عطاء میں دیر ہوگئی۔ و۔ بالمکان کسی جگہ مدت تک اقامت کرنا۔ الزَمَن جمع اَزْمان واَزْمُن والزمان جمع اَزْمِنَۃ والزَمَنَۃ زمانہ، وقت کم یا زیادہ۔ اَزْمِنَۃ السنۃِ سال کی فصلیں۔ الربیع (بہار) الصیف (گرمی) الخریف (خزاں) والشتاء (سردی)۔ زَمَنٌ زَامِنٌ سخت زمانہ۔ عَامَلَہٗ مُزَامَنَۃً اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔ مرضٌ مُزْمِنٌ (فا) پرانا مرض، دیرینہ بیماری۔

○ زَمِنَ ۔زَمَانَۃً سدا روگی ہونا، دائم المریض ہونا۔ اَزْمَنَ ب کسی جگہ طویل قیام کرنا۔ رہنا۔ ـــ طویل عرصہ رہنا، بیماری کا دائمی ہونا۔ زَمَن جمع اَزْمان وقت، عرصہ، مدت، دوران، زمناً، مِن زمان کچھ عرصہ سے علی الزمان ہمیشہ۔ اھل زمانہ کے ہم عصر، کے معاصرین۔ زَمَنِی زمانی، زمانہ کا، دنیوی، مادی، دنیاوی، ناپائیدار، عارضی، وقتی، لادینی۔ اَلْغَام زمنیۃ : وقتی قتیلہ کے ساتھ بارودی سرنگیں۔ قنبلۃ زمنیۃ ٹائم بم۔ زَمَانی زمانی، زمانہ کا، دنیوی، دنیاوی، ناپائیدار، لادینی، عارضی وقتی۔ زَمَنِیۃ و زَمَنِیَّۃ توقت کا عرصہ، وقت کی مدت، دیا ہوا وقت۔ مُزْمِن پائیدار، پرانا۔ مُزمن شدید۔ مزمن (مرض)

○ زَمْھَرَ سرخ ہو جانا، تمتمانا، خون آلود ہو جانا۔ اِزْمَھَرَّ ایضاً زَمْھَرِیر سخت سرد، شدید سردی۔

زمہ ۱۔ زَمِہَ ۔زَمَہاً الحرُّ گرمی کا تیز ہونا۔ و۔ الرجلُ بالحرِّ کو بہت گرمی لگنا۔ و۔ تِ الشمسُ الرجلَ کو بہت دھوپ لگنا۔

۲۔ زَمْھَرَتِ العینُ غصہ سے آنکھ کا سرخ ہونا۔ اِزْمَھَرَّ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الوجهُ: چہرہ کا بگڑنا۔ ـــ ت العینُ: آنکھ کا غصہ سے سرخ ہونا۔ المُزْمَهِرّ سخت غضبناک۔
۳۔ اِزْمَهَرَّ الیومُ دن کا سخت سرد ہونا۔ الزَّمْهَرِیْرُ: سخت ٹھنڈ۔
۴۔ اِزْمَهَرَّتِ الکواکبُ ستاروں کا چمکنا۔ المُزْمَهِرّ: ہنسنے والا۔
۵۔ اِزْمَهَلَّ المطرُ بارش ہونا، برسنا۔ و۔ الثلجُ برف کا پگھل کر بہنا۔
زن:۱۔ زَنَّ - زَنًّا عصبُهُ: کے پٹھے کا خشک ہونا۔ و۔ الرجلُ کے جوڑوں کا ڈھیلا ہونا۔
۲۔ زَنَّ - زَنًّا هُ بخیر أو شرٍّ (کو) اچھا یا برا گمان کرنا۔ و۔ ہ بکذا کو سے متہم کرنا۔ أَزَنَّ بخیر أو بشرٍّ کو اچھا یا برا گمان کرنا۔
۳۔ زَنَّ الرجلُ ہمیشہ ماش کھانا۔ الزِّنّ (ن) ماش، حنطةٌ زَنَّةٌ وہ گیہوں جس کو بارش کے علاوہ پانی دیا گیا ہو، بیوت کا گیہوں۔
۴۔ الزَّنَن: تنگ۔ ماءٌ زَنَنٌ تھوڑا پانی۔ ظلٌّ زنانٌ: تھوڑا سایہ۔ الزَّنِیْن: پیشاب یا پاخانہ روکنے والا۔
○ زَنَّ - زَنًّا بھنبھنانا، بھنکنا۔ زَنّ بھنبھناہٹ
زنأ: زَنَأَ - زَنْأً و زُنُوءًا فی الجبل پہاڑ پر چڑھنا۔ و۔ الرجلُ جلدی کرنا۔ و۔ الیه کے پاس پناہ لینا۔ و۔ زَنَأَ بولَه پیشاب روکنا۔ و۔ زُنُوءًا بولُهُ: کے پیشاب کا رکنا۔ زَنَّأَ علیه: پر تنگی کرنا۔ أَزْنَأَ إزناءً هُ: کو روکنا، پر چڑھنا، کو مجبور کرنا۔ الـزُّنَّاء پیشاب روکنے والا، تنگ، قبر۔ الزِّنِیُّ چھوٹی مشک۔ مشکیزہ۔
۲۔ زَنَأَ - زَنْأً و زُنُوءًا الظلُّ: سایہ کا سکڑنا۔ و۔ الرجلُ: زمین سے چمٹ جانا۔ الزَّنَاء: پستہ قد۔
۳۔ زَنَأَ - زَنْأً و زُنُوءًا الرجلُ خوش ہونا۔
زنب:۱۔ زَنِبَ - زَنَبًا: موٹا ہونا، فربہ ہونا۔ الأَزْنَب: موٹا پستہ قد۔ الـزَّیْنَب بزدل، ایک خوش نما خوشبودار درخت۔ الزَّأْنَبِیُّ آہستہ چال۔ زُنَابَةُ العقرب: بچھو کا ڈنک۔
۲۔ تزنبر علیه پر تکبر کرنا، تیوری چڑھانا۔ الزُّنْبُر (ح) شیر۔ الـزَّنْبَرِیُّ: بھاری بھرکم آدمی، بڑی کشتی کہتے ہیں۔ سفینة زَنْبَرِیَّة: یعنی بڑی کشتی۔ الزِّنْبر پھرتیلا خوش طبع، حاضر جواب۔ الزُّنْبُور بمعنی الزُّنْبُر و۔ جمع زَنَابِیر واحد زُنْبُورة (ح) بھڑ۔ الـزِّنْبِیر و الزِّنبار (ح) ڈنک مارنے والی مکھی۔ أرضٌ مَزْبَرَةٌ: وہ زمین جہاں بھڑوں کی کثرت ہو۔
۳۔ الزُّنْبُرُك گھڑی کا اسپرنگ (فارسی لفظ) اسے نابض بھی کہتے ہیں۔

○ زَنْبَرَك و زُنْبُرك جمع زنابك (دھاتی) سپرنگ چکر دار سپرنگ، بندوق وغیرہ کا گھوڑا یا کتا۔
۴۔ الزنباعة موزے یا جوتے کی نوک۔
۵۔ الزِّنْبَق جمع زَنَابِق چنبیلی کا تیل۔ بانسری الزنبقی واحد زَنْبَقَة جمع زنابق (ن) سفید سوسن یا چنبیلی۔ أمّ زَنْبَق: شراب۔
۶۔ الزِّنْبِل پستہ قد مرد۔
○ زَنْبَلك بمعنی زنبرك:
○ زَنْبِیل و زِنْبِیل زِنْبِیل جمع زَنَابِیل کھجور کے پتوں کی ٹوکری۔
زنت: تَزَنْتَرَ مٹک کر چلنا۔ الزَّنْتَرة تنگی، تنگ حالی۔
○ زِنْتَارِی: پیچش
زنج ۱۔ زَنِجَ - زَنَجًا: پیاس سے آنتوں کا سکڑنا۔ زَانَجَ هُ کو اچھا یا برا بدلہ دینا۔ تزنّج علیه پر دست درازی کرنا۔ الزَّنج والزِّنج جمع زُنوج: سوڈان کے حبشی، واحد زِنْجِیّ بھی اسے۔ زَنْج: بھی کہتے ہیں۔
۲۔ الزَّنْجَبِیل شراب (ن)، سونٹھ۔
۳۔ زَنْجَرَ انگوٹھے کے ناخن کو شہادت کی انگلی کے ناخن سے مارنا۔ الـزِّنْـجِیر ناخن کا کٹا ہوا حصہ۔ و۔ والزِّنجیرة جوانوں کے ناخن کی سفیدی۔
۴۔ الـزِّنْجَار (ک) تانبے کا زنگ۔ الـزِّنْجِیر: زنجیر۔ کہتے ہیں۔ زَنْجَرَهُ فتزنجر یعنی لوگوں نے اس کے پاؤں میں بیڑی ڈالی تو وہ قید ہو گیا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ جنزیر: (فارسی لفظ ہے)
۵۔ الزِّنْجَفر والزُّنْجُفْر شنگرف (فارسی لفظ ہے)
○ زِنْجار Verdigris زنگار۔
○ زِنْجِیر جمع زَنَاجِیر زنجیر۔ حساب الزنجیر دوہرا کھاتہ۔
زنح ۱۔ زَنَحَ - زَنْحًا هُ کی تعریف کرنا۔ زَانَحَ هُ ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ تزنّح الرجل کھل کر گفتگو کرنا، اپنے آپ کو مرتبہ سے زیادہ ظاہر کرنا۔
۲۔ زَنَحَ - زَنْحًا هُ کو دور کرنا، ہٹانا، کو معاملہ میں تنگ کرنا۔ زنّح الماءَ پانی بار بار پینا۔ تزنّح الماءَ: پانی بار بار پینا۔ و۔ الرجل قرض یا کسی اور معاملہ میں کسی کو تنگ کرنا۔
زنخ:۱۔ زَنِخَ - زُنُوخًا القُراد چیچڑی کا چمٹ جانا۔ زَنِخَ - زَنَخًا الدهنُ تیل کا متغیر ہونا، خراب ہونا۔ زَنِخ متغیر اور خراب تیل۔ زَانَخَ هُ ایک دوسرے کو دھکیلنا۔ تـزنّـخ تکبر کرنا، کھل کر بات چیت کرنا۔

تنگ ہو گئے ہوں۔
۲۔ زَنْخَرَ بمنخره خراٹے لینا۔
زند: زَنَدَ - زَنْدًا الاناءَ: برتن (کو) بھرنا۔ و۔ النارَ: چقماق سے آگ نکالنا۔ زَنَّدَ السقاءَ مشک بھرنا۔ -: چقماق سے آگ نکالنا۔ ما یُزَنِّدُك احدٌ علیه: کوئی تمہیں اس سے زیادہ نہیں دے گا۔ أَزْنَدَ الشیءُ چیز کا زیادہ ہونا۔ کہتے ہیں۔ مـا یُزْنِـدُكَ احدٌ علیه یعنی کوئی تمہیں اس سے زیادہ نہیں دیگا۔ الزَّنْد (مص) جمع زِناد و أَزْنُد و ازناد: چقماق کی اوپر کی لکڑی۔ الـزَّنْـدَه چقماق کی نیچے کی لکڑی، دونوں کو زندان کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ فلان واری الزند: یعنی فلاں شخص کامیاب و بامراد ہے۔ کابی الزند: یعنی ناکام۔ هما کالزندین: دونوں برابر ہیں، یہ بات دنائت و خساست میں کہی جاتی ہے۔ اوران دونوں کے لئے بولا جاتا ہے جن سے ضرورت پوری کی جائے۔ الـزِّنَـاد تم اس شخص کو کہتے ہو جو تمہاری مدد کرے۔ وَرَتْ بك زِنادی: یعنی تم نے اسکی آگ نکالی مراد تمہارے ذریعے میری ضرورت پوری ہوئی۔
۲۔ زَنِد - زَنَدًا الرجلُ پیاسا ہونا۔ زَنِدَ فی الأمر: تنگ دل ہونا۔ و۔ علی اهله اپنے گھر والوں پر سختی کرنا۔ أَزْنَدَ الرجلُ فی وجعه: آدمی کا پھر بیمار ہو جانا۔ تـزنّـد غضبناک ہونا، جواب نہ دے سکنا، آپ کہتے ہیں۔ سألتـه مسئلة فتزند یعنی میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکا۔ و۔ فی امر کذا تنگ دل ہونا۔ الـمُـزَنَّد تنگ، کنجوس، کم چوڑا کپڑا۔ عطاءٌ مُزَنَّد تھوڑی بخشش۔
۳۔ زَنَّد جھوٹ بولنا۔ المُزَنَّد متبنی۔
۴۔ الزَّنْد جمع زِناد و أَزْنُد و أَزْناد (ع) ہاتھ کا گٹا۔ و۔ اوالمِعْلاق (ن) کئی پھولوں میں مستطیل باریک اور مشترکہ جسم جس سے ہر پھول کے لئے علیحدہ علیحدہ شگوفے پھیلتے ہیں۔
○ زَنْد (مذکر و مونث) جمع زِناد و زُنُود چقماق۔ زَنْد و زِنْد جمع زُنُود ہاتھ کی اندرونی ہڈی۔ زند اسفل بازو کا اگلا حصہ (کہنی سے کلائی تک) زناد جمع أَزْنِدَة: چقماق (بندوق وغیرہ کا) گھوڑا، کتا۔ حَجَر الزِّناد: چقماق۔
۵۔ تزندق: زَنْدَقَة سے متصف ہونا۔ بے دین ہونا، بد اعتقاد ہونا۔ زِنـدیـق بے دین، بد اعتقاد۔ جمع زَنادِقة و زَنادِیق (فارسی لفظ ہے) مثال میں کہا جاتا تھا۔ من تمنطق تزندق یعنی جس نے منطق کا علم سیکھا وہ بداعتقادی میں گر گیا۔ یعنی بے دین و بد اعتقاد

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہوگیا۔ الـزنـدِیق: مکار اور زیرک ایسا شخص جو نہ تو
حرمت کا خیال کرے نہ محبت قائم رکھے۔ الـزَنْدَقَة:
باطن میں کفر اور ظاہر میں ایمان۔ رجـلٌ زَنْـدَقٌ و
زَنْدَقِيّ: سخت کنجوس آدمی بہت ہی مکھی چوس۔
○ تـزَنْدَقَ: آزاد خیال ہونا، دہریہ، کافر یا ملحد ہونا۔ زَنْدَقَة:
کفر، انکار خدا، الحاد۔ زِنْـدِیق: کافر، دہریہ، ملحد، آزاد
خیال۔

زنر: زَنَرَ ـ زُنُوراً الاناءَ: برتن بھرنا۔ و۔ الغلامَ: لڑکے
کو جنیو پہنانا۔ زَنَّـر اِلـیَّ بـعینه: اس نے مجھے گھور کر
دیکھا۔ تـزَنَّـر: زنار پہننا، جنیو پہننا، باندھنا۔ و۔
الشيءُ: باریک ہونا۔ الزُنّار جمع زَنَانِير و الزُنّارة:
جنیو۔ الزَنَانِير: چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔
○ زُنّار و زُنّارَة جمع زَنَانِير: پیٹی، کمر کند، پٹکا، کمر کے گرد
باندھنے والی رسی یا پٹی۔

زنزـ: الزَنْزَلَخْت جسے الا ذادرَخت (ن) بھی کہتے
ہیں۔ ایک خوبصورت درخت جس کا اصل وطن فارس
ہے مشرق وسطی میں آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے،
پھول خوشہ کی طرح ہوتا ہے۔
○ زَنزَانَة جمع زنزانات: جیل کی کال کوٹھری،
○ زِنْطارِيَة: پیچش۔

زنف: زَنِفَ ـ زَنَفاً و تزَنَّفَ: غضبناک ہونا۔

زنق: زَنَقَ ـ زُنُقاً الفرسَ: گھوڑے کے جبڑے کے نیچے
تسمہ لگانا۔ و۔ البـغـلَ: خچر کی ٹانگوں میں پائے بند
باندھنا۔ و۔ علی اولاده: مفلس اور کنجوسی کے باعث
اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں بخل سے کام لینا۔ زَنَّـقَ
الـفـرسَ: گھوڑے کے جبڑے کے نیچے تسمہ لگانا۔ و۔
البغلَ: خچر کی ٹانگوں میں پائے بند باندھنا۔ و۔ علی
اولاده: مفلس اور کنجوسی کی وجہ سے اپنی اولاد پر خرچ
کرنے میں بخل کرنا۔ اَزْنَـقَ عـلـی اولاده: ایضاً
الزَنَق جمع زُنُوق: نیزے کی نوک، گھوڑے کا نچلا جبڑا
جہاں تسمہ باندھتے ہیں۔ الـزَنْـقَةُ: تنگ کوچہ، گلی۔
الـزِنـاق جمع زُنُـق: رسی یا تسمہ جو گھوڑے کے نچلے
جبڑے کے نیچے باندھا جاتا ہے، خچر کا پائے بند۔ گلو
بند (ایک زیور) الـزِنـاقة: گھوڑے کے جبڑے کے
نیچے کی رسی کا حلقہ یا کڑی۔ الـزنِيق: محکم، مضبوط۔
رائٌ زَنِـيقٌ: صائب رائے الـمَـزْنُوق. (مفع) بند
پیشاب والا۔
○ زَنَـقَ ـ زَنْقًا ھ: کو کسنا، کس کر لگانا یا باندھنا، کو سکیڑنا،
(جانور کی ٹانگیں) ایک ساتھ باندھ دینا۔ زَنَقَ علی
کے ساتھ بخل سے کام لینا، کے راتب میں کنجوسی کرنا۔
زَنَـقَـة جمع زِنَـق: تنگ گلی، بند گلی۔ زِنـاق: گریبان،
کالر۔

زنك: الـزِنْكُ (ک) ایک قسم کا پتھر جس سے سرمہ بنایا
جاتا ہے۔ زِنك۔

زنم: زَنَّـم لـه الخصمَ: (کو) دشمن کے مقابلہ کے
لئے بھیجنا۔
۲۔ الزَنِم من الجمال م زَنِمة: اونٹ جس کے کان کا
کچھ حصہ کاٹ کر لٹکتا چھوڑ دیا گیا ہو۔ الاَزْنَـم مـن
الـجـمـال م زَنْماء جمع زُنْم: بمعنی الـزَنِم،
الـزَنَمة: اونٹ یا بکری کے کان کا حصہ جو کاٹا جاتا ہے
اور لٹکتا رہتا ہے۔ حلق کے نیچے کا لٹکتا ہوا گوشت، نشان
کہا جاتا ہے۔ فی کلامه زَنَمةُ خیرٍ او زَنَمةُ شرٍّ:
یعنی اس کی گفتگو میں نیکی یا بدی کی علامت ہے۔
زنـمتـا الاذُن (ع ا): کان کی لویں۔ الـزُنـام:
مصیبت۔ الـزَنِـیم: لئیم، کمینہ، منہ بولا بیٹا، ـــــ
والـمُـزَنَّـم: قوم میں داخل اجنبی آدمی جس کی قوم
حاجت مند نہ ہو۔ ناقة مُزَنَّمَة: اونٹنی جس کے کان
کا کچھ حصہ کاٹ کر لٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا ہو۔
○ زِنْمِردة: لڑاکا عورت، زن مرد صفت۔

زنا: زَنَا ـ زُنُوّاً: تنگ ہونا۔ زَنِيّ: تنگ۔ زَنَّی تَزْنِيَةً
علیه: پر تنگی کرنا۔

زنی: زَنَی ـ زِنیً و زِناءً و زانَی مُزاناةً و زِناءً: زنا کرنا۔
زانٍ جمع زُناة: زانی۔ زانِیة جمع زَوانٍ: زانیہ۔ زَنَّی
هُ: کی طرف زنا کی نسبت کرنا اور اسے زانی کہنا۔
اَزْنَی ازناءً هُ: کو زنا پر اکسانا، ابھارنا۔ الزانِیة (اس
میں تا مبالغہ کے لئے ہے) زنا کار۔ الزنّاءة: بہت
زنا کار۔
۲۔ الزِنّاءة: بندریا۔
○ زِنًی و زِناء: زنا کاری، زنا، حرام کاری۔

زہ: زِہْ: واہ، خواب، بہت اچھا۔ کبھی تمسخر کے لئے بھی
استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح برا کام کرنے والے کو کہا
جاتا ہے۔ بہت خوب۔

زهد: ا۔ زَهَدَ و زَهِدَ ـ وزَهُدَ ـ زُهْداً و زَهادةً فی
الشیء و عنه: بے رغبتی سے کسی چیز کو چھوڑ دینا،
اسی سے ہے زهـد فی الدنیا: اس نے دنیوی خواہشات
ترک کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ
کر لیا۔ صفت فاعلی: زاهد۔ صفت مفعولی: مزهود
فیه و عنه۔ زَهَّدَهُ فی الشیء و عنه: کو میں
بے رغبت کرانا۔ تزَهَّدَ: عبادت کے لئے دنیا ترک
کر دینا۔ تـزاهـد القـوم فلاناً: کسی کو حقیر جاننا یا
ذلیل سمجھنا۔ اِزْدَهَـدَ الشـیءَ: کو تھوڑا خیال کرنا۔
الزُهد و الزَهَادة: (مص) کسی شئے سے بے رغبتی،
روگردانی۔ شـيءٌ زَهِيد: تھوڑی چیز۔ الـزَهَد جمع
زِهاد: زکات، زکوة۔ الـزاهِد (فا): جمع زُهّـد
وزُهّـاد وزاهدون: آخرت کی محبت میں تارک دنیا۔
تنگ خو۔ الـزَهِیدم زَهِیدة جمع زُهدان: تھوڑا کہتے
ہیں۔ هو زهيد الخُلُق: وہ تنگ خو ہے۔ هو زهـيـد
العين: وہ قانع ہے۔ وادٍ زهيدٌ: وادی جس میں تھوڑا
پانی سما سکے، حقیر۔ الـمُـزْهِـد: کم مال والا۔ ارضٌ
زهادٌ: پانی پی جانے والی زمین۔ الـزَهِيد: بہت ہی
بے رغبت شخص۔
۲۔ زَهَدَ ـ زَهْدًا النخلة: درخت خرما پر پھلوں کا اندازہ
کرنا۔ زَهَّـدَ و اَزْهَـدَ الـنخلَ: کھجور کے درخت پر
پھلوں کا اندازہ کرنا۔ الزَهْد: کہتے ہیں۔ خُذ زَهْدَ ما
یکفیك: بقدر کفایت لے لو۔
○ زَهَـدَ ـ وزَهِدَ ـ وزَهُدَ ـ زُهْدًا ھ / فی: عن:
سے پرہیز کرنا، دستبردار ہونا۔ کو چھوڑ دینا، سے الگ ہو
جانا۔ ھ / فی: سے پیچھے ہٹنا، سے تعلق سے انکار کرنا۔
زهد فی الدنیا: تارک الدنیا ہو جانا، زاہدانہ اور پارسا
زندگی گزارنا۔ زَهَّدَہ فی: کو سے پرہیز کرنے کی ترغیب
دینا، کی میں لذت بے لطف کر دینا، کی سے نفرت
ابھارنا۔ تـزَهَّدَ: تارک دنیا ہونا۔ اِسْتَـزْهَدَ: غیر
اہم، چھوٹا، ناچیز تصور کرنا۔ زُهْـد فـی: سے (رضا
کارانہ) دستبرداری، سے بے اعتنائی، ـــ زهد: پرہیز
گاری، احتراز، اجتناب۔ الـزُهْد فی الدنیا: ترک
دنیا، زہد، ریاضت۔ زَهِید: تھوڑا، ادنی، معتدل، غیر
اہم، چھوٹا، معمولی سا۔ ـــ من: کا تھوڑا سا، کی تھوڑی
سی مقدار۔ زَهادَة: چھوٹا پن، ہلکا پن، قلت، گراوٹ،
پستی، معتدلی۔ تزَهُّدٌ: ترک دنیا، خدا کی عبادت میں
وقف زندگی۔ زَاهِـد: تارک الدنیا، نفس کش، پرہیز
گار، پارسا، اعتدال پسند۔

زهر: زَهَرَ ـ زُهُوراً السراجُ او القمرُ او الوجهُ:
چراغ یا چاند یا چہرے کا چمکنا، روشن ہونا۔ و۔ الشيءُ:
کا صاف رنگ ہونا۔ و۔ الزَنْدُ: چقماق سے آگ نکلنا
کہتے ہیں۔ زهـرت بك زنادی او ناری: تمہاری وجہ
سے مجھے قوت و عزت نصیب ہوئی۔
زَهِرَ ـ زَهَراً و زَهُرَ ـ زُهُورةً الرجلُ: حسین و بارونق
ہونا۔ اَزْهَـرَ النارَ: آگ جلانا، روشن کرنا۔ تـزاهَر
السراجُ و نحوه: چراغ وغیرہ کا چمکنا، روشن ہونا۔
اِزْدَهَرَ: روشن ہونا اور چمکنا۔ و۔ بالامر: کی حفاظت
کرنا اور دل میں رکھنا کہا جاتا ہے۔ اِزْدَهِرْ بهذا فانّ
له شأنا: اس بات کی حفاظت کرو ضائع نہ ہونے دینا۔
زَهْرُ النَرْدِ: تاش۔ الـزَهْـر و الـزِهْرة: حاجت،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ضرورت کہاجاتا ہے۔ فضیتُ منهُ زُهری وزِهرَی: میں نے اس سے اپنی ضرورت پوری کی الزُهَر: قمری مہینہ کی ابتدائی تین راتیں۔ الزُهرَة: خوبصورتی، رونق اور حسن وجمال۔ زَهرَةُ الدنیا جمع زُهَر وازْهَار وزُهُور و ازَاهِیر: دنیا کی رونق وخوبی وفراخی وخوشحالی۔ الزُهَرة (فلك): ایک ستارہ جو سورج سے اوسطاً 108 ملین کلومیٹر دور ہے، بہت زیادہ چمکدار ہے، کبھی صبح کا ستارہ اور کبھی شام کا ستارہ ہوتا ہے۔ شام اور عراق کے بعض پڑوسی عربوں کا معبود تھا اور وہ اسے عُزّیٰ کہتے تھے۔ و۔عند الاقدمین: قدماء کے ہاں حسن کی دیوی۔ الزَاهِر (فا): صاف چمکدار رنگ والا۔ احمرٌ زاهرٌ: گہرا سرخ۔ الأزهر م زهراء جمع زُهر: روشن، صاف رنگ والا، چمکیلے چہرہ والا، چاند (ح) جنگلی بیل۔ الازْهَران: سورج وچاند۔ المُزْهِر: مہمانوں کے لئے آگ جلانے والا، مہمان نواز۔ المِزْهَر (مو) جمع مَزَاهِر: سارنگی۔ الزَهّار: بہت چمکیلا کہتے ہیں۔ نجمٌ زَهّارٌ و قمرٌ نوّارٌ: بہت چمکیلا ستارہ اور بہت روشن چاند۔ الزَاهِرِیَّة: نازکی چال کہتے ہیں۔ هو یمشی الزاهریة: وہ ناز سے چلتا ہے۔

۲۔ اَزْهَرَ النباتُ: پودے کا شگوفے دار ہونا۔ اِزْهَرّ و اِزْهَارّ النباتُ: پودے کا شگوفے نکالنا۔ کلی دار ہونا۔ الزَهْر والزَهَر واحد الزَهْرة والزَهَرة جمع اَزْهُر وأزهار وزُهُور وجمع الجمع اَزاهِر وازاهِیر: (ز) کلی شگوفہ، پھول۔ الزاهر: خوشنما پودا۔ المزْهَرِیَّة: گلدان، گملہ۔

۳۔ زهرف الشيءَ: کو کھوٹا بناتا۔

⭘ زَهَرَ ۔ زُهُورًا: چمکنا، روشنی دینا، تابندہ ہونا، فروزاں ہونا۔ اَزْهَرَ: دہکنا، دمکنا، لہکنا، جھلکنا، چمکنا، روشن ہونا، شگوفے نکالنا، پھولنا، پھلنا، بہار پر آنا۔ اِزْدَهَرَ: آب وتاب سے چمکنا، تابندہ وفروزانی ہونا، شگوفے نکالنا، پھولنا، پھلنا، بہار پر آنا، پورے عروج پر ہونا۔ ترقی کرنا، پنپنا، فروغ پانا۔ زَهْر واحد زَهْرَة جمع زُهُور و اَزْهُر و اَزْهَار و اَزاهِر و اَزاهِیر: پھول، شگوفے۔ زهرُ الحدید: دیگی لوہا۔ زهر الثالوث: بنفشہ کے قسم کے پھولوں کے نام۔ زهرا الربیع: بسنتی پھول، زهر العسل: شہد آشام (ایک خوشبودار بیل) زهر اللؤلؤ: ڈیزی کماء الزهر: مالٹا جوس۔ زَهْرَة جمع زَهْرات: پھول، شگوفہ حسن، دمک، آب و تاب۔ زُهْرَة: روشنی، چمک، دمک، آب وتاب، حسن وجمال، طباعی۔ الزُهَرة: سیارہ زہرہ۔ زُهَرِی: آتشک امراضٌ زهریة: جماعی امراض۔ زُهْرِیَة جمع زهریات: گلدان۔ زَهّار: گل فروش۔ زَهْراوی: مسرور، خوش، شاداں، فرحاں شادمان (شخص) اَزْهَر: تابناک، چمکدار، روشن تاباں، تابندہ، درخشندہ، درخشاں، زیادہ تابندہ، زیادہ چمکدار، زیادہ روشن، الازهران: سورج اور چاند۔ جامعُ الازهر والجامع الازهر: قاہرہ میں الازہر جامع مسجد اور یونیورسٹی۔ الازهری۔ الازہر یونیورسٹی کا یا کے متعلق جمع اَزْهَرِیُون: الازہر یونیورسٹی کا طالب علم۔ مِزْهَر جمع مَزَاهِر: قدیم عربی بربط کی ایک قسم۔ آج کل تلفظ مَزْهَر ہے اور یہ ایک قسم کا طنبورہ ہے مَزْهَرِیة: گلدان۔ تَزْهِیر: کلی، شگوف، شادابی، شگفتگی، ازهار: شادابی، شگفتگی۔ ازدهار: شادابی، شگفتگی، پنپنا، پھول، کلی، شگوفہ، زَاهِر: چمکدار، روشن، تاباں، درخشاں، تابان، مُزْهِر: پھولنے پھلنے والا، بہار پر، چمکدار، روشن، درخشاں، تاباں۔

زهز: زَهْزَقَ الرجلُ: بہت ہنسا۔ و۔تِ الأمّ ولدَها: ماں کا بچے کو اچھالنا۔ کدانا۔ الزَهْزَق: لئیم، کمینہ۔

زهف: زَهَفَ ۔ زُهُوفاً الرجلُ: ہلاک ہونا۔ اَزْهَفَ الشيءَ: کو لے جانا۔ و۔فلانًا: کو ہلاک کرنا۔ اِزْدَهَفَهُ: کو ہلاک کرنا۔ و۔الشيءَ وبه: چیز کو لے جانا۔ و۔الحملَ: بوجھ اٹھانا۔ و۔تهُ الدابةُ: جانور کا کسی کو پچھاڑنا، پٹکنا۔

۲۔ زَهَفَ ۔ زُهُوفاً للموت او الی الموت: موت کے قریب ہونا۔ قریب المرگ ہونا۔ زَهِفَ ۔ زَهَفاً للشيء: کے لئے جلد کرنا، چستی کرنا۔ اَزْهَفَ الشيءَ: کی جلدی کرنا۔ و۔اِلیه الطعنةَ: کو نیزے کی ضرب کے قریب کرنا۔ و۔ته الطعنةُ: کو موت کے قریب پہنچادینا۔ و۔الرجلُ: شر کی طرف جلدی کرنا۔ و۔فلاناً: کے ساتھ برائی کرنا۔ و۔علی الجریح: حملہ کرکے زخمی کا کام تمام کردینا۔ و۔بما طلبه: کا مطالبہ پورا کرنا۔ اِنْزَهَفَتِ الدابّةُ: جانور کا مار وغیرہ کی وجہ سے کودنا۔ اِزدهفهُ: سے جلدی کرنے کو کہنا، کو ہلکا جاننا۔ و۔فلانٌ: شر میں پڑنا۔ و۔اِلی الموت: قریب المرگ ہونا۔

۳۔ زَهَفَ زُهُوفاً الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ اَزْهَفَ الرجلُ: چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا۔ و۔الخبرَ: خبر میں اضافہ کرنا، خبر میں کچھ بڑھا دینا۔ و۔له حدیثاً: سے جھوٹ بات کہنا۔ و۔الیه حدیثاً: کسی کی طرف ردی بات کی نسبت کرنا۔ و۔الشيءَ: کو بگاڑنا، خراب کرنا۔ و۔هُ بالشر: کو برائی پر ورغلانا۔ و۔بالشيء: کو چیز اچھی لگنا۔ اِزْدَهَفَ فلانٌ: کلام میں زیادتی کرنا۔ و۔فی کلامِهِ: اپنی گفتگو میں سختی کرنا اور آواز اونچی کرنا۔ و۔العداوةَ وبها: دشمنی اختیار کرنا۔

۴۔ زَهَفَ ۔ زُهُوفًا الرجلُ: ذلیل ہونا۔ اَزْهَفَ فلاناً: فلاں کو ذلیل کرنا۔

۵۔ اَزْهَفَ الشيءَ: کو ڈھیلا کرنا۔ تَزَهَّف عنه: سے اعراض کرنا۔ ازدهف عنه: سے اعراض کرنا۔ الشيءُ: چیز کا انحراف کرنا اور مائل ہونا۔

⭘ زهف اِلی الموت وازدهف الی الموت: قریب المرگ ہونا۔

زهق: ۱۔ زَهَقَ ۔ زُهُوقاً الباطلُ: باطل کا مٹنا۔ و۔ زَهْقاً وزُهُوقاً ت النفسُ: روح کا جسم سے نکلنا۔ و۔الشيءُ: باطل ہونا، ہلاک ہونا۔ و۔ت روحُهُ: بےکلی سے دل ٹوٹنا۔ زَاهَقَ الحقُ الباطلَ: حق کا باطل کو نیست ونابود کردینا۔ اَزْهَقَ الباطلَ: باطل کو مٹا ڈالنا۔ الزَهْق والزَهَق: گڑھا۔ الزَاهِق والزَهُوق: باطل ہلاک ہونے والا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے "قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهُوقاً: کہہ دو حق آگیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے والا) گہرا کنواں۔ بئرٌ زَاهِقة: بہت گہرا کنواں۔ المَزْهَقَة: بطلان و ہلاکت کا سبب۔ جمل مَزْهَقَةٌ لأرواح المطی: سواری کے جانور جان توڑ کوشش کے باوجود اونٹ تک نہیں پہنچ پاتے۔

۲۔ زَهَقَ ۔ زَهْقاً وزُهُوقاً ت الراحلةُ: سواری کا آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔ و۔السهمُ: تیر کا نشانہ سے گزر جانا۔ اَزْهَقَ السهمَ: تیر کو نشانہ سے آگے گزار دینا۔ و۔تِ الناقة السرجَ: اونٹنی کا زین کو آگے سرکا کر گردن پر ڈال لینا۔ و۔فی السیر: چلنے میں جلدی کرنا۔ اِنْزَهَقَ: سبقت لے جانا اور آگے بڑھنا۔ و۔تِ الدابة: مار وغیرہ کی وجہ سے جانور کا اچھلنا کودنا۔ الزَهِق: سرکش۔ الزَاهِق (فا) (ج) زُهُقٌ و زُهّق: شکست خوردہ شخص۔ و۔من السهام: وہ تیر جو نشانہ سے آگے جا کر اس کے پیچھے جا گرے۔ و۔من المیاه: تیز بہتا پانی۔ الزاهقة زاهق کا مونث۔ فرسٌ زَهَقَی: گھوڑی جو گھوڑوں سے آگے نکل جاتی ہو۔ الأُزْهُوقَة جمع اَزاهیق: تیز رفتاری میں تعجب انگیز کہتے ہیں۔ فرسٌ ذات ازاهیق: یعنی تیز چلنے میں تعجب انگیز گھوڑی۔ جاءت الخیلُ اَزَاهِیقَ و أَزَاهِیق: گھوڑں کے گروہ علیحدہ علیحدہ آئے۔

۳۔ زَهَقَ ۔ زُهُوقاً العظمُ: ہڈی کا گودے دار ہونا۔ زَاهَقَ الاناءَ: برتن الٹ دینا۔ اَزْهَقَ العظمُ: ہڈی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کا گودے دار ہونا۔و۔الاناءَ: برتن بھرنا۔الـزاھِق
جمع زُھُق و زُھُق: موٹا جانور، بہت لاغر و دبلا جانور۔
۴۔الزَھَق: پست زمین۔الـزُھـاق والزِھَاق: مقدار
کہتے ہیں۔عـنـدی زُھاق مائة دینار: میرے پاس
تقریباً سو دینار ہیں۔
○ زَھَـقَ ــــ زَہْقًا و زُھُوقًا: مرنا، زائدالمیعاد ہونا، ناکام
رہنا۔زھـقـت نفسُهٗ و زھقت رُوحُه: مرنا۔ــ
مِن: سے تھک جانا، اکتا جانا، متنفر ہونا۔اَزْھَقَ ہ: کی
تباہی یا زوال کا باعث ہونا، کو تباہ کرنا، نیست و نابود
کرنا۔اَزْھَقَ النفس (الروح): نفرت انگیز ہونا،
گھناؤنا ہونا۔زُھُـوق: مرنے والا، آنے جانے والا،
معدوم ہوجانے والا۔

زھـل: ا۔زَھَـلَ۔زَھْلاً عـن الشـیء: سے دور ہونا۔
زَهِلَ۔زَھَلاً الشیءُ: سفید و چکنا ہونا۔الزَاھِل:
مطمئن دل والا۔الزُھْلُول جمع زَھَالِیل: چکنا۔
۲۔زَھْلَقَ الشیءَ: کو چکنا و سفید کرنا۔تـزَھْلَقَ: چیز کا
چکنا اور سفید ہوجانا کہتے ہیں زَھْلَقَ له الحدیثَ:
اس نے اسکو نرم گفتگو سے مخاطب کیا۔الـزِھْلِق جمع
زَھَالِیق: چکنا، تیز اور ہلکا پھلکا آدمی۔تند ہوا، بتی میں
لو کی جگہ۔
۳۔تزھلق الحیوانُ: جانور کا فربہ ہونا۔حمار زِھْلِق:
فربہ اور برابر پیٹھ والا گدھا۔الزُھْلُوق: موٹا، فربہ۔

زھم: ا۔زَھَمَ۔زَھْمًا و اَزْھَمَ العظمُ: ہڈی کا
گودے سے بھرا ہونا۔زَھِمَ۔زَھَمًا: بدہضمی میں
مبتلا ہونا۔زَھْمان: بدہضمی میں مبتلا و ـــ: بہت
چکنا اور چربی دار ہونا۔زَھِم م زَھِمَة: بہت چکنا،
چربی دار۔الزُھم: چربی، بدبو۔سڑانڈ، ایک قسم کی
خوشبو جو زباد کہلاتی ہے۔الزَھَم والزُھمَة والزُھُومة:
سڑے ہوئے گوشت کی بو۔
۲۔زَھَمَ۔زَھْمًا الرَجُلَ: کے خلاف بہت باتیں کرنا۔و۔
ہٗ عن کذا: کو سے روکنا، باز رکھنا، پرڈانٹنا۔زَاھَمَ ہٗ:
آپس میں دشمنی رکھنا۔ایک دوسرے سے جدا ہونا،
نزدیک ہونا (ضد)۔
○ زُھْـم: ناگوار بو۔زَھِـم: بدبودار، متعفن۔زُھْـمَة:
ناگوار بو۔زُھُومَة: ناگوار بو۔

زھا: ا۔زَھَا۔زَھْوًا و زُھُوًّا و زُھَاءً الرجلُ: تکبر کرنا۔
و۔زَھَوًا فلانًا: کو حقیر جاننا، سمجھنا۔و۔الکِبْرُ فلانًا:
تکبر کا کسی کو خود پسند بنانا۔زُھِیَ الرَجُلُ بکذا: پر
تکبر کرنا۔اُزْھِی: تکبر کرنا۔اِزْدَھَی الرجُلَ: کو
مغرور بنانا، کو حقارت سے دیکھنا۔ــ ہٗ و به: کو ہلکا
جاننا۔ــ ہٗ علی الامر: (کو) پر مجبور کرنا۔الزَھْو (مص)
فخر، تکبر و غرور، ظلم۔الـمـزھُوّ والـمُزدَھَی: متکبر،
مغرور۔
۲۔زَھَا۔زَھْوًا و زُھُوًّا و زُھَاءً الرجلُ: جھوٹ
بولنا۔الزَھْو (مص) باطل اور جھوٹ۔
۳۔زَھَا۔زَھْوًا و زُھُوًّا و زُھَاءً: پھلنا پھولنا، بڑھنا،
نشوونما پانا۔و۔النخلُ: کھجور کا دراز ہونا۔و۔الغلامُ:
لڑکے کا جوان ہونا۔و۔تِ الشاۃُ: بکری کا جننے کے
قریب ہونا۔و۔تِ الامواجُ السفینةَ: موجوں کا
کشتی کو اوپر اٹھا دینا۔و۔یَزْھَی: (یزھو نہیں کہا
جاتا) السـرابُ الاکـمةَ: سراب کا ٹیلہ پر چڑھ
جانا۔اَزْھی النخلُ: کھجور کا دراز ہونا۔
۴۔زَھَا۔زَھْوًا و زُھُوًّا و زُھَاءً: چمکنا، روشن ہونا،
بڑھنا نمو پانا۔و۔النبتُ: نبات کا پھل دار ہونا۔و۔
البُسْرُ: کچی کھجور کا رنگ پکڑنا۔و۔السراجَ: چراغ
روشن کرنا۔و۔فلانٌ بالسیف: تلوار چمکانا۔و۔فلاناً
بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔زَھَّی البسرُ: کچی
کھجور کا رنگ پکڑنا۔اَزْھَی البسرُ: ایضاً۔الزَھْو
(مص) تر و تازہ نبات، رنگدار کچی کھجور۔و۔
والزُھاء: تروتازگی، حسن۔زُھا الدنیا: دنیا کی
زینت اور شان و شوکت۔الزُھُو (مص) رنگدار کچی
کھجور۔الـزاھـی (فا) م زاھیة: تروتازہ چمکدار
چہرے والا۔
۵۔زَھَا۔زَھْوًا و زُھُوًّا و زُھَاءً ات الریحُ: ہوا کا
چلنا۔و۔تِ الریحُ النباتَ: ہوا کا پودوں کو ہلانا۔
زَھَّی تِ المِروَحَةُ الریحَ: پنکھے کا ہوا کو ہلانا، جنبش
دینا۔
۶۔الزُھاء: مقدار کہتے ہیں۔عـنـدی زُھاءُ خمسین
دیناراً: میرے پاس تقریباً پچاس دینار ہیں۔
○ زھا ــ زُھُوًّا: شگوفے نکالنا، پھولنا، پھلنا، بہار پر آنا،
بڑھنا، پنپنا۔آب و تاب سے چمکنا، چمکدار ہونا، روشن
ہونا، جھلکنا، دمکنا، تمتمانا، شیخی بگھارنا، مغرور ہونا۔
ـــ ب: پر فخر کرنا، پرڈینگ مارنا، بڑھانکنا۔اَزْھَی:
شگوفے نکالنا، پھلنا، پھولنا، بہار پر آنا، پھول کھلانا،
بڑھنا، پنپنا، مغرور ہونا، لاف زنی کرنا۔اِزْدَھَی و
اُزْدُھِیَ: مطمئن ہونا، مغرور ہونا، متکبر ہونا۔اِزْدَھَی
ب: میں چمکنا، روشن ہونا، (فضیلت) ظاہر کرنا، کی شیخی
مارنا، بڑہانکنا۔زَھْـو و زُھُـو: کلی، شگوفہ، فصل گل،
شادابی، شگفتگی، آب و تاب، حسن و جمال، غرور، تکبر،
نخوت، اکڑفوں، خود پسندی، بیجا غرور، جھوٹا ناز۔
لاحاصل چیز یا چیزیں۔تفریح زَھِی: درخشاں،
شاندار، پرشکوہ، ٹھاٹھ کا، بیش بہا۔زَھـاء: درخشانی،
تابانی، تابندگی، آب و تاب، شان و شوکت۔زُھـاء:
عدد، مقدار زُھاءَ: تقریباً، لگ بھگ، کچھ (عدد، مقدار
وغیرہ) اَزْھَی: زیادہ پنپنے والا، زیادہ مغرور، زیادہ
متکبر۔اِزدھاء: پھول، کلی، شگوفے، فصل گل، شادابی،
شگفتگی، پنپنا، بہار، جوبن، چمکنا، دمکنا، آب و تاب،
شان و شوکت، درخشانی، تابانی، فخر۔زاہٍ: چمکدار،
تاباں، روشن درخشاں، تابندہ، شاندار، ٹھاٹھ کا، زرق
برق، پرشکوہ، خوبصورت، بھڑکیلا۔مَـزْھُـوب: پر فخر
کرنے والا ـــ: مغرور، متکبر، نخوت پسند، شیخی خورہ،
لاف زن، خود پسند۔

زاء: زَاءَ۔زَوْءًا به الدھرُ: سے زمانہ کا پلٹ جانا۔

زاب: زَابَ۔زَوْبًا: چپکے سے بھاگ جانا۔ــ الماءُ: پانی
کا بہنا۔

زاج: ا۔زَاجَ۔زَوْجًا بینهم: کو بھڑکانا کے درمیان
فساد ڈالنا۔پھوٹ ڈالنا۔
۲۔زَوَّجَ ہٗ اِمـرأةً او بامرأةٍ او لامرأةٍ: کا کسی عورت
سے نکاح کرنا۔و۔الشیءَ بالشیءِ و الیه: کو
سے ملا جوڑنا۔زَاوَجَ ہٗ: ایک دوسرے سے میل
جول رکھنا اور ایک دوسرے کے قریب ہونا۔و۔و
اَزْوَجَ بینهما: کو قریب کرنا۔تَزَوَّجَ امرأةً و بامرأةٍ:
کسی عورت سے نکاح کرنا۔و۔فی قوم: کسی قوم میں
انکی کسی عورت سے نکاح کرنا۔تَزَوَّجَهُ النوم: اسے
نیند آگئی۔تزاوجَ و اِزْدَوَجَ الکلامُ: کلام کے ایک
حصہ کا دوسرے حصہ سے سجع یا وزن میں مشابہ ہونا۔
و۔القومُ: آپس میں شادی بیاہ کرنا۔الزَوْجُ جمع
اَزْوَاج و زَوْجَة جمع زَوجَات جمع الجمع زَاوِیج: خاوند، شوہر،
بیوی، زوجہ، ساتھی، جوڑا۔اشتریتُ زَوْجَی نعال:
میں نے جوتی کا جوڑا خریدا۔ہر شے کی قسم۔الزَوْجة
جمع زَوجات: بیوی۔الزِوَاج: تَزَوَّجَ کا اسم۔
شادی بیاہ۔
۳۔الزاج (ك): گندھک کے تیزاب کا نمک جو کپڑے
رنگنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔عامی لفظ "جاز" ہے۔
○ زَوَّجَ ہ ب/ من: کو کے ساتھ جوڑنا، ملانا ــــ ہ: کو
جوڑوں میں ملانا، کو دوگنا کرنا، پیدا کرنا ــــ: مساوات
قائم کرنا ــــ ہا ہ/ ب/ من: عورت کی کسی مرد سے
شادی کر دینا۔زَاوَجَ: جوڑا بنانا ــــ بین: متوازی
عبارت میں دو لفظ استعمال کرنا۔دو لفظوں کو ایک
جوڑے میں شامل کرنا ــــ بین۔و): کی کے ساتھ
شادی کرنا۔کو ازدواجی بندھن میں کے ساتھ جوڑنا، کو
نکاح میں کے ساتھ متحد کرنا۔تَزَوَّجَ ہ/ علی/ ب/
من: سے شادی کرنا، سے شادی شدہ ہونا۔تَزَاوَجَ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مختلف خاندانوں وغیرہ کا شادی بیاہ کے ذریعے آپس میں مل جانا۔ جوڑا جوڑی ہونا۔ دوگنا ہونا اِزْدَوَجَ: جوڑا بنانا، شادی کرنا، جوڑا ہونا، دوگنا ہونا، دوبارہ ظاہر ہونا۔ زَوْج جمع اَزواج: جوڑے میں سے ایک، شوہر، بیوی، ساتھی، جوڑا، (جوتیوں کا) جوڑا زوجات: بیوی۔ زِیْجَة: شادی۔ زَوْجی: جوڑوں میں، دوگنا، ازدواجی، شوہر سے متعلق، متاہل زندگی سے متعلق۔ زِیْجی: ازدواجی، متاہل زندگی کے متعلق۔ زناشوئی۔ زَوْجِیَة جمع زوجیات: شادی۔ زواج من: سے شادی۔ وحدة الزواج: ایک زوجگی۔ مزواج: اکثر شادی کرنے والا۔ تزویج ھا من: عورت کی کسی سے شادی کرنا۔ زِواج: ثنی بنانا، دوچند کرنا، دو گنا کرنا۔ متوازیت۔ مُزَاوجَة: جوڑا بنانا، دو چیزوں کا اتحاد۔ تَزَوُّج: شادی۔ تَزَوَاج: دو خاندانوں وغیرہ کا شادی بیاہ کے ذریعے آپس میں مل جانا۔ ازدواج ضریبی: ڈبل ٹیکس۔ مُتَزَوِّج: شادی شدہ۔ مُزْدَوِج: دگنا، دہرا۔ ڈبل۔

زاح: زَاحَ - زَوْحًا و زَوَاحًا عن المكان: سے دور ہونا، ہٹ جانا، چلا جانا۔ وـتِ العِلّةُ: بیماری جاتی رہنا۔ وـزَوْحًا الابلَ: اونٹوں کو منتشر کرنا، اکٹھا کرنا (ضد) زَاحَهُ: کو اسکی جگہ سے ہٹانا، دور کرنا۔ ازاحَ اللّٰهُ العِلَلِ: اللہ تعالیٰ علتوں کو دور کریں۔ ازاح الامَر: کام کا پورا کرنا کہتے ہیں۔ ازحت عِلَّته فی ما احتاج الیه: میں نے اسکی ضرورت پوری کردی۔ اِنْزَاحَ: زائل ہونا، منتشر ہونا۔

زاد: زاد - زَوْدًا: زادِ راہ تیار کرنا اور لینا۔ زَوَّدَ و ازادَهُ: کو زادِ راہ دینا۔ تَزَوَّدَ: زادِ راہ لینا کہتے ہیں۔ تزوّد من الامیر کتاباً الی عامله: اس نے امیر سے اس کے گورنر کے نام خط لیکر اسے پہنچایا تا کہ اس سے مدد حاصل کرے۔ تَزَوَّدَ منی طعنةً بین اُذنیه: اس نے اپنے دونوں کانوں کے درمیان مجھ سے نیزہ کا زخم کھایا۔ اِزدادَ و اِسْتَزَاد الرجُلُ: زادِ راہ طلب کرنا، توشہ، سفر خرچ طلب کرنا۔ الزاد جمع اَزوِدَة و اَزْوَاد: توشۂ سفر، زادِ راہ، سفر خرچ۔ المِزْوَد و المَزَاد و المَزَادة جمع مَزَاود: توشہ دان۔ نُفاضةُ المزاوِد: توشہ دان میں بچے کچھے ریزے جن کو مسافر آکر جھاڑ دیتا ہے۔ یہ خست کے لئے ضرب المثل ہے۔

○ زَوَّدَهُ ب: کو اشیائے خوردنی فراہم کرنا ـــــ ہ ھ: کو اشیائے خوردنی و اشیائے ضرورت فراہم کرنا ـــــ ہ و ھ ب: کو سے لیس کرنا، (ساز و سامان) مہیا کرنا ـــــ ہ ب: کو کوئی (خوبی) عطا کرنا ـــــ ھ ب: کو سے مالا مال کرنا۔ أَزْوَدَہ: کو اشیائے خوردنی فراہم کرنا۔ تَزَوَّدَ: اشیائے خوردنی مہیا کیا جانا۔ سفر پر اشیائے خوردنی ساتھ لے جانا ـــ من: سے معلوم کرنا ـــ ب: اپنے آپ کو سے آراستہ کرنا، لیس کرنا، کچھ لینا۔ زاد جمع اَزواد و اَزْوِدَة: اشیائے خوردنی، رسد، ذخیرہ، سٹور۔ زَوَاد: اشیائے خوردنی۔ زُوّادَة: اشیائے خوردنی۔ مِزْوَد جمع مَزَاوِد و مَزَائد: تھیلا (چیزیں رکھنے کا)۔ مَزَادَة: ایضاً۔ تَزْوِید ب: کی فراہمی، کی بہم رسائی، سے لیس ہونا، کی فراہمی۔ : (جہازوں میں) ملاح رکھنا۔ مُزَوِّد جمع مُزَوِّدُون: ٹھیکے دار، سپلائر، مہیا کرنے والا، فراہم کرنے والا، اشیائے خوردنی بہم پہنچانے والا ٹھیکیدار، کھانے پینے کا سامان بہم پہنچانے والا، بہم رساں خانساماں، ہوٹل کا مالک، یا ناظم۔ مُزَوَّد ب: سے لیس، فرنیچر لگا۔ کچھ مہیا یا فراہم کیا ہوا، سے مسلح، سے متعلق یا مربوط، کے ہمراہ، کی معیت میں۔

زار: ۱ـزَارَ - زِیارةً و مَزَاراً و زَوْراً و زُوَاراً و زُوَارةً هُ: کے پاس ملنے کے لئے جانا۔ زائر جمع زائرون و زُوَّر و زُوَّار م زائرة جمع زُوَّر زَوْر وزائرات: ایسا شخص (جو ملاقات کے لئے آیا ہو) زوّر الزائرَ: ملاقاتی کی تکریم کرنا، آپ کہتے ہیں زُرْتُهم فزوّرُونی: میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے میری عزت افزائی کی۔ وـالقومُ صاحبَهُم: سے بھلائی کرنا، کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آنا۔ ازَارَهُ: کو ملنے جانے پر اکسانا۔ وـهُ الشیءَ: چیز اس کے پاس لے جانا۔ اِزْدَارَهُ: زارہ کا معنی دیتا ہے۔ تَزَاوَرَ القومُ: ایک دوسرے کی ملاقات کو جانا کہتے ہیں۔ هُمْ یتزَاوَرُون اوبینهم تَزَاوُر: (وہ ایک دوسرے کو ملنے کے لئے جاتے رہتے ہیں، آپس میں ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں)۔ اِسْتَزَارَهُ: کو ملاقات کے لئے کہنا۔ الزَوْر: ملاقاتی (مفرد مثنی اور جمع سب کے لئے) کہا جاتا ہے رَجُلٌ زَوْرٌ ورجال زَوْرٌ و نساء زَوْرٌ۔ الزَوْرة: زار کا اسم مرة ایک دفعہ ملاقات کے لئے جانا۔ الزَوَّار و الزَوُور: کثرت سے (ملاقات) کے لئے جانے والا۔ الزِیْر جمع ازوَار و ازیَار و زِیَرة: بدنیت کے بغیر عورتوں سے بات چیت کرنے کا دلدادہ۔ عادت۔ الزِیرة: ملاقات کی شکل، کہتے ہیں زرته زِیْرَةَ الحبُ: میں نے محبت میں اس سے ملاقات کی۔ المزار (مص) جمع مزارات: زیارت، ملاقات، زیارت کی جگہ، اولیاء کی زیارت گاہیں۔

۲ـزَارَ - زِوَاراً الفرسَ: گھوڑے کو زبار سے باندھنا زَوِرَ - زَوَرًا: ٹیڑھے سینے والا ہونا، مائل ہونا عنه: سے پھرنا۔ وـالشیءَ: چیز کو اچھا کرنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا، سیدھا کرنا۔ تَزَاوَرَ و اِزْوَرَّ و ازوار عنه: سے علیحدہ ہونا، منحرف ہونا۔ الزُوْر: طاقت (کہتے ہیں ماله زُوْرٌ ولا صَیُّورٌ: اس کے پاس نہ تو قوت ہے نہ ہی لوٹنے کی جگہ) عقل، رای، آقا، رہنما، سردار۔ الزَّوْر: سینہ کا درمیان سے بالائی حصہ یا سینہ کی ہڈیوں کے جوڑ کی جگہ۔ فرسٌ عریضُ الزَوْر: چوڑے سینے والا گھوڑا (کہتے ہیں۔ اَلقی زوره: بمعنی اقامت کرنا) قوت ارادی، عقل، سردار، رہنما۔ الزَوْرَة: شدت وصلابت کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھنے والی اونٹنی، دُوری۔ الزَوَر (مص): سینہ کے بالائی حصہ کا ٹیڑھا پن یا اس کے ایک جانب کا دوسرے پر ہونا، جھکاؤ۔ الزِوَر: سفروں کے لئے تیار کردہ اونٹ، سخت رفتار۔ سخت۔ وـالزِوِیر و الزُوَیر: قوم کا سردار اور رئیس۔ الازْوَرم زَوْراء جمع زُوْر: بیچ سے پتلے سینہ والا، ٹیڑھے سینے والا، مائل، جھکاؤ، ترچھی نظر سے دیکھنے والا کہتے ہیں۔ قوم عن مواقف الحق زُوْرٌ: حق کے موقفوں سے منحرف قوم۔ الزَوْرَاء: کمان، گہرا کنواں، بغداد کا شہر، بغداد کا دجلہ۔ کلمةٌ زَوْرَاءُ: پوچ اور لچر بات۔ منارةٌ زَوْرَاء: کج منارہ۔ فلاةٌ زَوْرَاء: دور کا جنگل۔ الزِّیر جمع اَزْوَار و اَزْیَار و زِیَرَة: باریک تانت۔ الزِّیر: غضبناک۔ الزِیَار: دو لکڑیاں جس سے سالوتری گھوڑے کے ہونٹوں کو دبا کر اسے قابو کرتا ہے اور اپنا کام سرانجام دیتا ہے۔ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں: زَیَّرَ الفرسَ۔ و ـــ والزِوار جمع اَزْوِرَه: ہر اصلاح اور بچاؤ کی چیز، سینہ بند اور تنگ کے درمیان کی رسی۔

۳ـزَوَّرَ: جھوٹ کو مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ وـالکلامَ: کلام کا ابطال کرنا، اسے جھوٹ سے منسوب کرنا۔ وـالشهادةَ: گواہی کو جھٹلانا۔ وـنفسَهُ: پر جھوٹ کی علامت لگانا۔ وـالشیءَ لنفسه: کسی شئے کو اچھا سمجھ کر اپنے لئے مخصوص کرلینا۔ وـعلیه: کسی پر جھوٹ باندھنا۔ وـفلاناً علی نفسه: فلاں پر تہمت باندھنا۔ تَزَوَّرَ: جھوٹ بولنا۔ وـالشیءَ: کو پسند کرکے اپنے لئے خاص کرلینا۔ الزُوْر: جھوٹ، باطل، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، گانے کی مجلس، کھانے کا مزہ اور اسکی خوشبو۔ الزَوْر: خیالی شکل جو رات میں دکھائی دے۔

۴ـالزُّوْر: کپڑے کی ملائمت اور صفائی۔ الزَارَة: بانس وغیرہ کی پانی رکھنے والی جھاڑی اونٹوں کا ریوڑ۔ وـالزَاوِرَة و الزَاوُورَة: پوٹا۔ الزَاوَرَة: پوٹا۔ زاوَرَة

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

- القطاة: بھٹ تیتر کا وہ حصہ جس میں وہ اپنے چوزوں کے لئے پانی لے جائے۔ الزَوْرَاء: پیالہ، چاندی کا برتن۔ الزِّيَر جمع أزْوَار وأزْيَار و زِيَرَة: کتان (زِيرة۔ کتان کا ایک ٹکڑا) بڑا مٹکا جو زمین میں گڑھا کھود کر رکھا جاسکے۔

۵- الزورق جمع زوارق: چھوٹی کشتی، ڈونگا۔

○ زَارَ ـُـ زَوْرًا و زِيَارَةً ہ: سے ملاقات کو جانا یا آنا، کودکھ پہنچانا۔ زَوَّرَ ہ: کو جعلی بنانا، گھڑنا، میں جعلسازی کرنا، جعلی (سکہ یا دستاویز) بنانا، نقل کرنا۔ تَزَاوَرَ: ملاقاتوں کا تبادلہ کرنا۔ ایک دوسرے سے ملنا۔ اِزْوَرَّ عن: سے علیحدہ رہنا، میل جول نہ رکھنا، کا مخالف ہونا۔ اِزْوَرَّ بہ عن: کو سے سرگشتہ کرنا۔ استزارہ: کسی کی ملاقات کی خواہش کرنا۔ زَوْر: گلا یا سینہ کا بالائی حصہ آلام الزَوْر: دکھتا گلا۔ زَوَر: ڈھلان، ڈھال۔ ٹیڑھا پن، جعلسازی۔ غداری، عیاری، بھینگا پن۔ زَوْرَة جمع زَوْرَات: ملاقات۔ زِيَارَة جمع زيارات: ملاقات، ڈاکٹر وغیرہ کا مریض کو دیکھنے آنا۔ أزْوَر م زَوْرَاء جمع زُوْر: ڈھلوان، ترچھا، خمیدہ، کج، بھینگا۔ مَزَار جمع مَزَارات: مزار، آستانہ، درگاہ، مقبرہ۔ تَزْوِير: جعل سازی، غلط بیانی۔ تَزْوِير في السندات: دستاویزات میں جعلسازی۔ اِزْوِرَار: دور رہنا، تنفر، بیزاری، ناپسندیدگی، زائِر جمع زائِرون و زُوَّار مؤنث زائِرة جمع زائرات و زُوَّر: ملاقاتی، مہمان۔ مَزُور: جہاں کوئی گیا ہو، جس سے کوئی ملا ہو۔ مُزَوَّر: جعلی، جعل سازی کیا ہوا، بناوٹی، کھوٹا، دھوکہ سے حاصل کیا ہوا، بلمع کر کے پیش کیا ہوا۔

○ زَوْرَق جمع زَوَارِق: کشتی، چپوؤں والی کشتی، ہلکی کشتی۔ - بخاری: دخانی کشتی۔ - الصيد: مچھلیاں پکڑنے کی کشتی۔ - النجاة: بچاؤ کشتی۔ زورق ناسف: تارپیڈو کشتی۔

زوس: الزُوسْتِيرا (ن): ایک پودا جو بحر اوقیانوس اور بحر متوسط کے ساحلوں پر ہوتا ہے اور مچھلیوں کی غذاء کے لئے مفید ہے۔

زوش: الزَوْش: کمینہ غلام۔ الأزْوَش: متکبر۔

زوط: زَوَّطَ: بڑا لقمہ بنانا۔ الأزْوَط: جس کی ایک آنکھ دوسری سے تنگ ہو یا آنکھ کی سیاہی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہو۔

زوع: ا- زَاعَ ـُـ زَوْعًا فلانًا: کو آگے کی طرف دھکیلنا، روکنا۔ و- الشيءَ: (کو) موڑنا۔ و- الدابّةَ: جانور کی لگام کو ہلا کر اسے تیز چلانا۔

۲- زَاعَ ـُـ زَوْعًا له من البطيخة زُوعَةً: کسی کے لئے خربوزہ کی ایک قاش تراشنا۔ و- تَزَوَّعَ اللحمُ: گوشت کا پٹھے سے اتر جانا۔ زَوَّعَ الإبلَ: اونٹوں کو منتشر کرنا، پراگندہ کرنا۔ الزُوعة جمع زُوَع: لوگوں کا ایک گروہ۔ و- من البطيخة ونحوها: خربوزہ وغیرہ کی ایک قاش یا پھانک۔ و- من النبت: گھاس کا خشک ہونے والا قطعہ۔

۳- الزَاعة: جنگ پر جانے والا پیدل فوجی دستہ۔ الزُوع والزَوَع: (ح) مکڑی۔

زاغ: ا- زَاغَ ـُـ زَوْغًا الشيءَ: کو جھکانا۔ - الناقةَ: اونٹنی کو نکیل سے کھینچنا۔ و- زَوْغًا و زَوَغَانًا: جھکنا، ظلم کرنا۔ و- البصرُ: نگاہ کا پھرنا اور مضطرب ہونا۔ أزَاغَ ازاغةً ہ: کو جھکانا۔

۲- الزاغ: (ح) کوئے سے چھوٹا اس کا ہم شکل پرندہ۔

○ زَاغَ ـُـ زَوْغًا و زَوَغَانًا عن: سے ہٹنا، تجاوز کرنا، منحرف ہونا۔ ـــ: منحرف ہونا، سچائی سے انحراف کرنا، دھوکا دینا۔ تَزَاوَغَ: سیدھے راستہ سے ہٹ جانا۔

زاف: ا- زَافَ ـُـ زَوْفًا- ت الحمامةُ: کبوتر کا بازو اور دم پھیلا کر ان کو زمین پر کھینچنا۔ ـــ الطائر في الهواء: پرندہ کا ہوا میں چکر کاٹنا۔ و- الرجلُ: آدمی کا اعضاء ڈھیلے کر کے چلنا۔ ـــ الماءُ: پانی پر بلبلے اٹھنا۔ ـــ وتَزَاوَفَ: ورزش کرنا۔ الزُوُوف: چلنے میں ڈھیلا پن۔

۲- الزُوفَى و الزُوفَاء: (ن) باریک تنے اور صعتر جیسے پتے والی ایک نبات بلغم کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

زوق: زَوَّقَ الكلامَ: کلام کو حسین بنانا۔ و- البيتَ: گھر پر نقش و نگار کرنا۔ و- الدرهمَ: درہم پر پارہ کا ملمع کرنا۔ الزَوَاق: لونڈی کی زینت۔ الزَوَقة: گھروں کو زینت اور نقش و نگار سے آراستہ کرنے والے۔

الزَاوُوق والزَاؤُوق: پارہ۔

○ زَوَّقَ ہ: کو سجانا، آراستہ کرنا، کی آرائش کرنا، کی سج دھج کرنا، کو سنوارنا، سنگارنا، کی زیبائش کرنا، کی ذہن میں تصویر لانا یا قائم کرنا۔ زِوَاق: سجاوٹ، زیبائش، سج دھج، آرائش، سنگھار، تزئین، بھڑکیلا، میک اپ، سنگار کا سامان۔ مُزَوَّق: سجایا ہوا، آراستہ کیا ہوا، آرائش کیا ہوا۔ رنگین، مرصع (تقریر) بھڑکیلا، زرق برق۔

زاك: زَاكَ ـُـ زَوْكًا و زَوَكَانًا: شانوں کو حرکت دینا اور ٹانگوں کو بیچ سے کھولنا یا ٹانگیں چوڑی کرنا، مغرورانہ چال سے چلنا۔ تَزَاوَكَ تَزَاوُكًا: شرم و حیا کرنا۔ الزَوَك: کوے کی چال۔

زال: ا- زَالَ ـُـ زَوْلاً و زَوَالاً و زَوَلانًا و زُؤُولاً و زُوُولاً و زَوِيلاً: ہلاک ہونا، جاتا رہنا، ہٹنا، پھر جانا۔ زال عنه ملكه: اس کا ملک اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا، نکل گیا۔ و- ت الشمسُ: سورج کا ڈھلنا۔ و- ت الخيلُ بركبانها: گھوڑوں کا اپنے سواروں کو لیکر اٹھنا اور اسی سے ہے۔ زِيلَ بنعشه: اسکی نعش اٹھائی گئی۔ کہا جاتا ہے۔ زال زائل الظلّ: دوپہر ہوگئی۔ زال لـ زِيلَ زَوِيلُهُ و زَوَالُهُ: پہلو کا ڈر سے کانپنا۔ و- زَوْلاً: حرکت کرنا۔ اری النجوم تزول ولا تغيبُ: میں ستاروں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ فلانٌ يَزُولُ في الناس: فلاں شخص لوگوں میں بہت گھومتا پھرتا ہے۔ اور کسی جگہ ٹکتا نہیں۔ زَوَّلَ الشيءَ: کسی چیز کو لانا۔ و- أزَالَ و ازالةً ہ: کو ہٹانا، ایک طرف کرنا۔ ازَالَ اللهُ زَوَالَهُ: خدا اسے ہلاک کرے۔ تَزَوَّلَ الشيءَ: کسی چیز کو لانا۔ تزاول القومُ: باہم کوشش کرنا۔ انزَالَ عنه: سے جدا ہونا۔ اِزْوَلَّ اِزْوِلالاً الشيءُ: زائل ہونا، جاتا رہنا۔ الزَوْلُ جمع أزْوَال: شخص، بہادر، بلا۔ الزَوَال: (مص) سورج کا ڈھلنا کہتے ہیں۔ الساعة الرابعة زواليّة: یعنی ظہر کے بعد چار بجے ہیں۔ الزَوَّال: بہت حرکت کرنے والا۔ الزائل (فا)۔ کہتے ہیں۔ ليل زائل النجوم: لمبی رات۔ الزائلة جمع زَوائِل: زائل کا مونث، ہر زندہ چیز، ہر متحرک چیز۔ الزوائل: ستارے، شکار۔ الزَوِيل: (مص) حرکت، طرف، جانب۔ المِزْوَلة جمع مَزَاوِل: دھوپ گھڑی۔

۲- زَاوَلَ ہ: کی کوشش کرنا۔ کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، تلاش کرنا۔

۳- تَزَوَّلَ الغلامُ: لڑکے کا بہت ظریف ہونا۔ الزَوْلُ جمع أزْوَال: سبک زیرک خوش طبع جس کی دانائی کو پسند کیا جاتا ہے، سخی، تعجب کہتے ہیں۔ سَيرٌ زَوْلٌ: عجیب سیر۔ شتوةٌ زَوْلَةٌ: عجیب سردی۔ الزوائل: عورتیں۔

○ زول و زيل زَالَ ـُـ زَوَالاً عن / من: سے دور چلے جانا، سے پیچھے ہٹ جانا، کسی شخص یا چیز کو چھوڑ بیٹھنا، چھوڑ جانا، چھوڑ دینا۔ ـــ: غائب ہوجانا، نظر سے اوجھل ہوجانا، دفعتہً غائب ہوجانا، فضا میں تحلیل ہوجانا، گھٹنا، کم ہونا، ساکن ہونا، ختم ہوجانا، ڈوبنا۔ زَالَ ـِـ زَيْلاً: ختم ہونا۔ زال منه الغضب: اس کا طیش کم ہوگیا۔ زال عن الوجود: معدوم ہوجانا۔ لم يزل، ما زال، لا يزال: ابھی تک، تب تک۔ ما زلتُ أفعله: میں ابھی تک یہ کر رہا ہوں۔ ما زال قائماً: وہ ابھی تک کھڑا ہے۔ ما زال في: وہ ابھی تک کے اندر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے۔ لایزال فی حاجة الیه : اسے ابھی تک اس کی ضرورت ہے۔ لایزال علی ذکر منه : وہ ابھی تک اسے یاد ہے۔ زَوَّلَ ھ : کو ہٹانا، خارج کرنا، نکالنا۔ زَیَّلَ ھ : کو علیحدہ کرنا، تباہ کرنا، منتشر کرنا، بکھیرنا۔ زَاوَلَ ھ : کو کرتے رہنا۔ خود کو کی نذر کرنا، کیلئے وقف یا مخصوص کرنا، کو تن دہی سے کرنا۔ زَایَلَ ہ و ھ : سے الگ ہونا، رخصت ہونا، کو چھوڑ دینا، ___ بین : کو جدا کرنا۔ زَایَلَ الدارَ : گھر سے نکل جانا، گھر چھوڑ جانا۔ اَزَالَ ھ : کو رکوانا، غائب کرانا، یا ہوا میں تحلیل کرانا، کو ہٹانا، خارج کرنا، ختم کرنا، کو ایک ہی ضرب میں ختم کرنا۔ تَزَایَلَ : جدا ہونا، بے ربط ہونا، ختم ہونا، رکنا۔ زَوْل جمع اَزْوَال : شخص، مشہور انسان، رات کا سایہ، بھوت، پیکر خیالی، روح، وہمی صورت۔ زَوَال : خاتمہ، گزرنا، مرور، پوشیدگی، غائب ہو جانا، معدوم ہو جانا، انقطاع، اختتام، غروب (آفتاب)، دوپہر۔ سریع الزوال : عارضی، جلد مرجھا جانے والا، جلد بھول جانے والا۔ بعدَ الزوال : سہ پہر یا تیسرے پہر میں۔ عندَ الزوال : دوپہر کے قریب، دوپہر کو۔ خط الزوال : خط نصف النہار۔ فی الساعة الرابعة زوالية : ۴ بجے سہ پہر۔ زُوَلِيَّة جمع زَوَالي : گانٹھ دار کمبل۔ مِزْوَلَة جمع مَزَاوِل : دھوپ گھڑی۔ مُزَاوَلَة : (کچھ) کرتے رہنا، (کو) تندہی سے کرنا، محنتی مطالعہ، (کسی کام یا پیشہ کو) کرنا۔ اِزَالَة : کو ہٹانا، خارج کرنا، دور کرنا۔ زَائِل : عارضی، وقتی، ناپائیدار، مختصر مدت کا جلدی مرجھا جانے والا۔

○ زولوجیا : حیوانیات، علم الحیوانات۔ زولوجی : حیوانیاتی۔

زام : ۱۔ زَامَ ۔ زَوْمًا الرجلُ : مرنا۔ ۲۔ الزام : چوتھائی۔ زام من النہار : دن کا چوتھائی حصہ۔ زامان من النہار : دن کا نصف۔ الزامة جمع زَامَات : جماعت، گروہ۔ الزُوْم : عوام کے نزدیک کسی چیز کا نچوڑا ہوا عرق یا شیرہ (اس معنی کے لئے فصیح لفظ النُسْغ) وہ پانی جس سے کپڑا دھویا جائے۔ (فصیح الغُسالة) الزَوِیْم : ہر جمع شدہ چیز۔ ۳۔ زَوْمَلَ الابلَ : اونٹوں کو ہانکنا۔ الزَوْمَلَة : لدے ہوئے گدھے کہتے ہیں۔ ھو ابن زَوْمَلَتِها : وہ اس کا جاننے والا ہے۔

○ زام ۔ زوماً : (کتے کا) غرانا۔ زَوَّمَ : بڑبڑانا۔ زُوْم جمع اَزْوَام : رس، عرق۔

زون : الزَوْن والزُون : پستہ قد۔ الزُوْن : پستہ قد، بت یا مندر۔ الزَوْنَة : زینت، عقلمند عورت۔ الزُوَان والزُوَّن والزَوَان : گیہوں سے مشابہ ایک دانہ جو گیہوں میں پیدا ہوتا ہے اور خواب آور ہے۔

زوی : ۱۔ زَوَی ۔ زُوِیًّا وزَیًّا الشیءَ : کو اکٹھا کرنا، پر قبضہ کرنا۔ و۔ المالَ وغیرہ : مال وغیرہ اکٹھا کرنا۔ زَوَّی الکلام : کلام کو اپنے دل میں تیار کرنا۔ تَزَوَّی : سکڑنا، منقبض ہونا۔ اِنزَوَی : منقبض ہونا۔ و۔ القومُ بعضهم الی بعض : قوم کا یکجا ہونا۔

۲۔ زَوَی ۔ زُوِیًّا وزَیًّا الشیءَ : کو ایک طرف ہٹانا، روکنا۔ و ___ عنه الشرَّ : سے برائی کو دور کرنا۔ ___ عنه حقَّه : کسی کا حق روک لینا۔ و۔ الدهرُ القومَ : زمانے کا قوم کو بربادی کے گھاٹ اتارنا۔ الزاوية من البیت جمع زَوَایَا : گھر کا کونہ، معماروں اور بڑھیوں کی اصطلاح میں دو مستقیم ضلعوں کا ایک پیمانہ جن کے اتصال سے زاویہ قائمہ پیدا ہوتا ہے۔ (زاویہ کی مختلف اقسام ہیں۔)

○ زوی ۔ زویا ھ : (ابرو) سکیڑنا، پر شکن ڈالنا، بھویں سکیڑنا۔ ___ ھ : کو ہٹانا، چھپانا۔ زوی مابین عینیه : اس نے اپنے بھویں سکیڑے۔ نے (غصہ میں) تیوری چڑھائی۔ زَوَّی وتَزَوَّی : کونے میں ہٹ کر رہ جانا۔ گوشہ نشین ہونا، عزلت گزین ہونا۔ اِنزَوَی : ایضاً نیز الگ تھلگ رہنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ انزوی فی جلدِه : شرم وغیرہ سے گڑ جانا۔ اِنزِواء : تنہائی، خلوت، گوشہ نشینی، عزلت گزینی، علیحدگی۔ زاوية جمع زَوَایَا : کونا، گوشہ، زاویہ، چھوٹی مسجد، عبادت کا کمرہ، ایک مسلمان ولی کی قبر پر بنی ہوئی گنبد والی چھوٹی مسجد، تکیہ۔ حجر الزاوية : کونے کا پتھر۔ من زوایا مختلفة : مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے۔ مُنزَوٍ : الگ تھلگ، گوشہ نشینی، یا عزلت گزینی کا، دور افتادہ، دور، غیر واضح مبہم، دھندلا سا۔

زیب : ۱۔ تَزَیَّبَ لحمُهُ : گوشت کا یکجا ہو کر ایک تہہ بہ تہہ ڈھیر بن جانا۔ الزَیَب : ہوا کی شدت۔ رجلٌ زَیْبٌ وازْیَب : مضبوط آدمی۔ الاَزْیَب : جنوبی ہوا، بہت پانی۔ (ح) سیہ، خوشی، چستی، چست، خوش، ہشاش بشاش، پستہ قدم چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے والا، کمینہ، منہ بولا بیٹا، اجنبی، ناپسندیدہ بات، مصیبت، دشمنی۔ الازیب : شدید بخیل۔

۲۔ الزِیْبَق : پارہ۔

زات : زَاتَ ۔ زَیْتًا وزَیَّتَ الطعامَ : کھانے میں تیل ڈالنا۔ و۔ الشیءَ : چیز کو تیل سے تر کرنا، کو تیل لگانا۔ و۔ القومَ : قوم کو زیتون کا تیل کھلانا یا بطور توشہ زیتون کا تیل دینا۔ اَزَاتَ : کے پاس تیل ہونا۔ اِزْدَاتَ اِزدیاتًا : روغن زیتون ملنا۔ اِستزات : روغن زیتون مانگنا۔ الزَیْت : (مص) جمع زُیُوت : تیل، مختلف قسم کے نباتات وحیوانات سے نکلنے والے تیلوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے خواہ کھانے، روشنی کرنے یا خوشبو لگانے کے لئے استعمال ہوں۔ الزَیَّات : تیل فروش، تیلی۔ الزَیْتُون واحد زَیْتُونَة (ن) زیتون کا درخت، زیتون کا تیل، زیتون کا پھل۔ الزَیْتُونِیّ : زیتون کے رنگ کا۔ الزَیْتُونِیَّة : پودے جن کے پتے زیتون کے درخت کے پتوں جیسے ہوتے ہیں جنہیں باڑوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ الزیتونیات : (ن) پودوں کا ایک خاندان جو تین قبائل پر مشتمل ہے۔ (۱) زیتونی (۲) مُرانی (۳) یاسمینی۔ المَزِیْت والمَزْیُوت : جس میں تیل ڈالا گیا ہو۔ المِزْیَتَة : تیل کی کپی جس کے ذریعے مشینوں کو تیل دیا جاتا ہے۔

○ زَیَّتَ ھ : (مشین وغیرہ کو) تیل دینا، گریس لگانا، (کھانے میں) تیل ڈالنا۔ زیت حار : السی کا تیل۔ زیت الحوت : کاڈ مچھلی کا تیل۔ زیت الخروع : کیسٹر آئل۔ زیت السمك : کاڈ مچھلی کا تیل۔ زیت التشحیم : مشین کا تیل۔ زیت الاستصباح : ایندھن کا تیل، فیول آئل۔ زیت الغاز : مٹی کا تیل۔ زیتی : تیل کا۔ صورة زیتیة لوحة زیتیة : آئل پینٹنگ۔ جبل الزیتون : فلسطین کے ایک پہاڑ کا نام۔ جامع الزیتونة : تیونس کی جامع مسجد اور یونیورسٹی۔ زیتونی : زیتون رنگ کا، تیونس کی جامع کا طالب علم جمع زیتونیون۔ مزیته : تیل کی کپی۔ مُزَیَّت : جس کو تیل دیا گیا ہو۔

زیج : الزیج جمع زِیَجات و زِیَجَة : (ب) معماروں کا دھاگا جس سے وہ دیواروں کو برابر کرتے ہیں (فارسی لفظ) (فک) علم ہیئت میں اس جدول کا نام ہے جس سے سیاروں کی حرکات کا پتہ لگاتے ہیں۔

زاح : زَاحَ ۔ زَیحًا و زُیُوحًا و زُیُوحًا و زَیَحَانًا : دور ہونا، چلے جانا۔ و۔ اللثامَ : نقاب کھولنا، ہٹانا۔ اَزَاحَ ہُ : کو دور کرنا، لے جانا۔ اِنزَاحَ انزیاحًا : دور ہونا، چلے جانا۔ الزِیْح (ھ) : دیکھئے الانسحاب۔ الزَیَّاح : عیسائیوں کے ہاں ایک دینی تہوار جس میں مقدس چیزیں اٹھا کر لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں یا انہیں لیکر لوگوں میں گھومتے ہیں۔ اس سے فعل بنا کر کہا جاتا ہے : زَیَّحَ لایقُونة : عیسائی اولیاء کی تصویر لے کر لوگوں کو دکھاتے پھرنا۔ المزاج : خلوت کی جگہ، تنہائی کی جگہ۔

زَاحَ ۔ زَیحًا و زیوحًا و زَیَحَانًا : دور جانا، چلے جانا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رخصت ہونا، ترک کرنا۔ــــ اَزاحَ ہ: کو ہٹانا، دور کرنا، نکال دینا۔ــــ ہ عن: سے پردہ، نقاب وغیرہ اٹھانا۔ازاح اللثام عن: (کچھ) ظاہر کرنا، منظر عام پر لانا۔ازاح الستار عن تمثال: یادگار (وغیرہ) کی نقاب کشائی کرنا۔اِنزاحَ: چلے جانا، رخصت ہونا، ترک کرنا۔(پردہ) اٹھایا جانا۔زِیح جمع زِیَاح (سیدھا) خط، زِیَاح جمع زِیاحات: دینی جلوس۔ازاحة: ہٹانا، دور کرنا، خاتمہ کرنا۔ازاحة الستــــار: (یادگار کی) نقاب کشائی۔

زاخ: زَاخَ ـِ زَیْخًا و زَیَخَانًا: ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، الگ ہونا۔اَزَاخَ ہُ: کو علیحدہ کرنا۔تَــزَیَّــخَ: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا۔

زاد: ا۔زَادَ ـِ زَیْدًا و زِیدًا و زَیْدًا و زِیَادَةً و مَزِیْدًا و زَیْدَانًا: بڑھنا، زیادہ ہونا۔و۔الشیءَ: کو بڑھانا۔و۔فلانٌ: زیادہ دینا۔زَیَّدَہُ: کو بڑھانا۔زَایَدَہُ: بڑھنے میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔تَزَیَّدَ السعرُ بھاؤ کا بڑھنا، اونچا ہونا، نرخ کا گراں ہونا۔و۔الرجلُ فی حدیثه: بات کو بڑھا کر بیان کرنا۔فی الشی: کو بڑھانے میں تکلف کرنا۔تَزَایَدَ فی حدیثه: بات کو بڑھا کر بیان کرنا۔تزایدوا فی ثمن الـ لمعة: ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا یا بولنا۔ ازداد۔ زَادَ (لازم و متعدی) کے معنی میں۔ زیادہ ہونا یا کرنا، زیادہ طلب کرنا۔ اسْتَــزَادَہُ: سے زیادہ طلب کرنا۔ الزَائِدم زَائِدة جمع زَوَائِد(فا)۔ زائدة الکبد (ع ا): زائدہ جگر۔الزائدة الدُوْدِیَة: (طب) زائدہ معویہ۔الزوائد من الاسنان: کچلیوں کے قریب کے دانت۔الزیادة (مص) جمع زِیادات و زیائد: بڑھائی یا بڑھی ہوئی چیز۔الزَیْد والزِیْد: زیادہ کہا جاتا ہے۔ھم زَیْدٌ علی مائة: یعنی وہ سو سے زیادہ ہیں۔التزایُد: تدریجی اضافہ، بڑھاؤ۔المَزِید: (مص و مفع) زیادتی، زیادہ کہا جاتا ہے۔لامَزِیْدَ علی هذا الامر: یعنی اس پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔المزادة جمع مَزَادٌ و مزائد: چمڑوں کے ٹکڑوں سے پانی رکھنے کے لئے تیار کردہ تھیلا یا ڈولچی۔المُزَایَدة او البیع بالمَزاد العلنی: نیلامی نیلام عام۔

۲۔استزادہٗ: کو کم سمجھنا اور شکایت کرنا۔

○ زَادَ ـــ زِیادَةً: بڑا یا زیادہ ہو جانا، بڑھنا، زیادہ ہونا، مرکب ہونا۔ــــ من یا علی: سے زیادہ ہونا۔ــــ علی عن ب: رقم وغیرہ کا سے بقدر زیادہ ہونا۔ــــ علی: تعداد یا رقم سے متجاوز ہونا۔ــــ ہ: کو زیادہ کرنا، مرکب کرنا، بڑھانا، بڑا کرنا۔ــــ ہ من و ہ الی: کو سے تک بڑھانا، میں تک اضافہ کرنا۔ــــ ہ علی: کو میں شامل کرنا۔ــ علی: میں اضافہ کرنا، کو بڑھانا، بڑا کرنا۔ــــ من / فی: کو پھیلانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا، بڑھانا، ترقی دینا، آگے بڑھانا۔ــــ ہ ہ: کو کا زیادہ دینا۔لایزید علی: یہ سے زیادہ نہیں، یہ صرف ......ہے۔زاد و قائلاً: اس نے مزید کہا۔زِدْ علی ذلك ان: اس میں یہ بڑھا لیجئے کہ۔مزید برآں۔زادہ علماً: کو اس کے متعلق مزید بتانا، کو مزید اطلاع فراہم کرنا۔زَیَّــدَ: کو زیادہ کرنا، بڑھانا، مرکب کرنا، بڑا کرنا، میں اضافہ کرنا۔زَایَدَہ: نیلام میں کسی سے زیادہ بولی دینا، سے بڑھ کر بولی دینا۔تَـزَیَّدَ: زیادہ ہونا، (بھاؤ) کا چڑھنا، (کچھ بتانے میں) اضافے کرنا، یا مزید نمک مرچ لگانا، مبالغہ آرائی کرنا، لفاظی کرنا، باتونی ہونا۔تزید من العلم، من المعرفة: اضافی علم حاصل کرنا، اپنا علم بڑھانا۔تَـزَایَدَ: ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا، بتدریج زیادہ ہونا، زیادہ بڑھنا، شدت اختیار کرنا۔ــــ من: کو بڑھاتے چلے جانا۔ اِزداد: بڑھنا، زیادہ ہونا، مرکب ہونا۔ ازداد بُکاءً: وہ روئے چلا گیا۔استزدها: کا مزید مطالبہ کرنا، کچھ مزید طلب کرنا، اپنے مطالبے بڑھاتے جانا، زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ــــ ہ: زیادہ کی تمنا کرنا، کی وسعت و توسیع کے لئے کام کرنا۔ استزادة: سے کوئی چیز اور مانگنا۔الزَیْدِیة: یمن میں آزاد دولت مشترکہ بنانے والا شیعی فرقہ۔الزَیُّود: زیدی فرقہ کے پیرکار۔زِیَادَة: زیادتی، اضافہ، ترقی، بڑھنا، بڑھوتری، نشوونما، زائد، زیادہ، (بھاؤ وغیرہ) چڑھانا، بڑھانا، بلند کرنا، شدت اختیار کرنا، پیدا کرنا، فالتو تنخواہ، الاؤنس۔زیادةً: مزید برآں علاوہ ازیں۔ زیـــادةً عَن: سے زیادہ، کے علاوہ، سے قطع نظر۔ حَمَلَه زیادةً عن تحمله: اس نے اس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ لادا۔زیادةً علی ذلك: مزید برآں، علاوہ ازیں۔زیادة المَوالید: پیدائشوں کی بے اعتدالی۔لِزِیادةِ الایضاح: مزید توضیح کے لئے مزید وضاحت کے لئے۔اَزْیَد: زیادہ فزوں از حد، اونچا تر، عظیم تر، زیادہ بڑا۔مَزَاد جمع مَزَادات: نیلام، نیلامی، نیلام عام۔مَزِید علی: سے زیادہ۔ ــ: ضرورت سے زیادہ، بہت کثرت، اونچا درجہ، بڑی حد، انتہائی زیادہ سے زیادہ، حد سے زیادہ، بلند ترین، عظیم ترین، اعلیٰ، بہترین، اضافہ شدہ۔بمزید الشکر: بہت بہت شکریہ کے ساتھ۔بمزید الاسف: انتہائی افسوس کے ساتھ۔بمزید الارتیاح: انتہائی خوشی (اطمینان یا تسلی) کے ساتھ۔لیس له من مزید: اس پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، کوئی بازی نہیں لے جا سکتا۔مُزَایَدَة جمع مُزَایدات: نیلام، نیلام عام، نیلامی۔تَزَیُّد: (میں) مبالغہ، اپنے ہی اضافے یا حاشیہ آرائی، بے سروپا باتیں، رام کہانی۔تَزَایُد: (تدریجی) اضافہ، زیادتی، ترقی، بڑھوتری، نشوونما، افزائش۔ازدیاد: اضافہ، افزائش، نشوونما، چڑھائی، اونچا ہونا، شدت اختیار کرنا۔اِستِزَادَة: مزید کے لئے جدوجہد، اضافہ، توسیع، پھیلاؤ کے لئے لگاتار کام کرنا، مزید کی خواہش یا طلبی۔لم یَبْقَ استزادة لستزید: اس کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اب کوئی بات ایسی نہیں رہ گئی جس کا اضافہ کیا جا سکے۔ زائد عن: سے زیادہ۔زائد عن الحاجة: ضرورت سے زیادہ، فالتو۔زائِدَة جمع زَوَائِد: امعائے زائدہ۔ زَائِدة مِعْوِیَة اور زَائِدة دُوْدِیَة: زائدہ دودیہ Vermi appendix مُزَاید جمع مُزَایدون: بولی دینے والا، بڑھ کر بولی دینے والا۔مُتَزَایِد: ثابت قدمی سے بڑھنے والا، اتار چڑھاؤ والا۔

زیر: زیر: دیکھو زور۔

زیز: الزِیز جمع زِیزان (ح) ایک قسم کا کیڑا جو ریز ریز کی آواز نکالتا ہے اور درختوں پر ملتا ہے۔الزِیزی والزِیزَاء والزِیزَاء و الزازیة: جمع الزیازی: چھوٹا ٹیلا یا کرخت زمین پر یا اس کے اطراف۔الزِیزیّات (ح): حشرات الارض کی ایک صنف۔

۲۔الزَیْزَفُونُ (ن): ایک قسم کا پودا۔

زاط: زَاطَ ـِ زَیْطًا و زِیاطاً: چیخنا اور بہت جھگڑنا۔زیّاط: چیخنے اور بہت جھگڑنے والا۔

زاغ: ا۔زاغَ ـِ زَیْغًا و زَیَغَانًا و زَیْغوغَةً: جھکنا، ٹیڑھا ہونا۔و۔البصرُ: نگاہ کا تھکنا۔زَیَّغَهُ: کو ٹیڑھا کرنا، کی کجی کو درست کرنا۔اَزَاغَ ہُ عن الطریق: کو راستہ سے بھٹکانا، بدراہ کرنا۔ــــ الرجلَ: کو کجی میں ڈالنا۔ تَزَایَغَ: مائل ہونا۔الزَائِغ جمع زاغة و زائغون: فا۔الزَیْغ: (مص) حق سے انحراف۔شک۔ الزُیوغ: جھکاؤ، میلان۔

۲۔تَزَیَّغَ: آراستہ ہونا، مزین ہونا، بناؤ سنگھار کرنا۔

۳۔الزاغ جمع زِغْلان(ح): چھوٹا کوا، جس کے پیٹ اور پیٹھ پر کچھ سفید بال ہوتے ہیں یہ گندگی خور نہیں ہوتا۔ اس کی ایک قسم جو الزاغ الجیفی کہلاتی ہے۔جو مردار خور ہے۔

○ زاغ ـــ زَیْغًا و زَیَغَانًا: ایک طرف ہو جانا۔ــ عن:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، سے دور ہونا، سے منہ موڑ لینا۔۔۔ : (آنکھوں کا) بھٹکنا۔أَزَاغَ ہ: کو منحرف کرنا۔ازَاغ عنی بَصَرَہُ : اس نے میرا دل توڑ دیا۔
زَیغ وزَیَغان: انحراف، تجاوز۔زَیغ و سَدَاد : غلطی کرنا، ٹھیک کام کرنا، باطل وحق۔زَائِغ: منحرف، مختلف، غلط، توڑ موڑ کر بیان کیا ہوا، شکل بگاڑا ہوا، غلط راستے پر ڈالا ہوا۔مصنوعی، نقلی۔نظراتٌ زائغۃٌ: بھٹکی نظریں۔

زاف: ازَافَ۔زُیُوفًا تِ الدراھمُ علیہ: کے درہم کھوٹے ہونا۔و۔زَیفًا الدراھمَ: کھوٹے درہم بنانا یا درہموں کو کھوٹا سمجھنا۔زَیَّفَ الدراھمَ: کھوٹے درہم بنانا۔و۔الرجلَ: کی تحقیر کرنا۔تَزَیَّفَتِ الدراھمُ: درہم کھوٹے ہونا۔الزائف(فا) من الدراھم جمع زُیَّف و زُیُوف: کھوٹا درہم۔الزَیف: کھوٹا پن کہا جاتا ہے۔دِرھمٌ زَیفٌ: کھوٹا درہم۔

۲۔زاف۔ف زَیفًا الحائطَ: دیوار پھاندنا۔زَیَّفَ البناءُ: عمارت کا بلند ہونا۔الزَیف جمع زِیَاف و اَزْیَاف و زُیُوف: دیوار کا چھجہ، کنگرہ۔

۳۔زافِ۔زَیفًا و زَیَفانًا: مٹک کر چلنا۔۔۔ البعیرُ: ڈگمگاتے ہوئے تیز چلنا۔الزَائِف(فا): جمع زُیَّف و زُیُوف: شیر۔الزَیَّاف م زَیَّافۃ: مٹک کر چلنے والا، شیر۔

○ زاف۔۔۔ زَیفًا: نقلی ہونا، مصنوعی ہونا، جعلی ہونا۔زَیَّفَ ہ: (سکہ وغیرہ) جعلی بنانا، کو نقلی یا جعلی قرار دینا۔زَیف: مصنوعی ہونا، غرور، تکبر، جمع زُیُوف: نقلی، مصنوعی، جعلی، کھوٹا۔ازیَف: زیادہ مصنوعی، زیادہ جعلی۔
تَزیِیف: جعلسازی، جعلی بنانا، کھوٹا بنانا۔زَائف: جعلی، گھڑا ہوا، کھوٹا، نقلی۔اَخبارٌ زَائِفَۃٌ: جھوٹی خبریں۔نقود زائفۃٌ: کھوٹے سکے۔مُزَیِّف: جعلساز، جعلی سکے بنانے والا۔مُزَیَّف: جعلی، گھڑا ہوا، کھوٹا، نقلی۔

زیق: زَیَّقَ الثوبَ: کپڑے میں گوٹ لگانا۔تَزَیَّقَتِ المرأۃُ: عورت کا بننا سنورنا، سنگھار کرنا، سرمہ لگانا۔الزِیق: (ب) دیوار برابر کرنے کے لئے معمار کا دھاگا، کپڑے کی گوٹ۔

○ زَیَّقَ: چرچرانا، چوں چوں کرنا، چرمرانا، چڑچڑانا، چیں چیں کرنا۔زِیق جمع زِیَاق: کالر، گریبان۔(لباس کا) حاشیہ، گوٹ، مغزی، سنجاف۔

زاك: زاكَ۔زَیَکانًا: ناز و نخرہ سے چلنا۔الزیك: چھوٹے چھوٹے جواہر جو ایک بڑے جوہر کے گرد اگرد جڑے ہوئے ہوں۔

زال: ازالَ۔زَیلًا ہُ عن مکانہ: کو اس کی جگہ سے ہٹانا۔مَازِلتُ افعلُ: میں کرتا رہا۔مازِلتُ بزَیدٍ و مَازلتُ زَیدًا حتی فعَلَ: میں زید کے ساتھ لگا رہا حتی کہ اس سے نے کر دیا۔زِلتُ افعل بمعنی مازلت افعل حرف نفی کو پوشیدہ سمجھتے ہوئے آتا ہے لیکن بہت کم۔زَیَّلَ ہُ: کو متفرق کرنا۔زَایَلَہُ: باہم دگر جدا ہونا۔أَزَالَ اِزَالَۃً و ازالاۃً ہُ عن مکانہ: کو اسکی جگہ سے ہٹانا۔تَزَیَّلُوا و تزایلوا: متفرق ہونا، جدا ہونا۔۔۔ عنہ: سے شرمانا کہا جاتا ہے۔انا اتزایل عنك فلا اتجاسر علیك: میں تمہارے سامنے شرماتا ہوں۔الزَیَل: دو رانوں کے درمیان کا فاصلہ۔الأزیَل: دونوں کے درمیان فاصلہ والا۔

۲۔رجلٌ مِزیَل و مِزیَال: خوش طبع، ہنرمند ذہین۔

زام: زَامَ۔زَیمًا لفلان فاسکتہ: کو ایک لفظ بول کر خاموش کر دینا۔تزیمت الخیل وغیرُھا: گھوڑوں وغیرہ کا متفرق ہونا۔و۔تَزَیَّمَ اللحمُ: گوشت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔گتھا ہوا ہونا۔(ضد) الزِیمَۃ جمع زِیَم: گوشت وغیرہ کا ٹکڑا۔

زان: ازَانَ۔زَینًا ہُ: کو زینت دینا۔و۔الشیءَ: کو خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا۔زَیَّنَ تزیینًا و أزَانَ ازانۃً و أزیَنَ ازیانًا ہُ: کو خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا۔تَزَیَّنَ تَزَیُّنًا و اِزَّیَّنَ اِزِّیَّانًا و ازدَانَ ازدِیانًا وازَّیَنَ اِذینانًا وازبانّ ازیِینانًا: آراستہ ہونا، مزین ہونا۔الزان: سفیدے کی قسم کا درخت۔امرأۃٌ زائنٌ: سنوری ہوئی عورت۔الزَیّن (مص) جمع ازیان: آرائشگی، خوبصورتی۔زینُ الدیكِ: مرغ کی کلغی۔الزینۃ: آرائشگی، زینت کی اشیاء۔سجاوٹ۔باغوں کا خوبصورت پھولوں، پتوں اور تنوں والا ایک قسم کا پودا۔امراضُ الزینۃ: (طب) بالوں، جلد یا ناخن کے امراض۔الزَیَان: خوبصورت کہتے ہیں۔قمرٌ زیان: بمعنی خوبصورت چاند۔الزِیان: زیبائش اور آرائش کی چیزیں۔الزینیۃ (ن): پھول دار پودے۔للمُزَیِّن: نائی، حجام۔

۲۔الزان: بدہضمی۔الزانۃ: بدہضمی۔

○ زانَ۔۔۔ زَینًا ہ: کو آراستہ کرنا، سجانا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا۔زَیَّن ہ: کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا، کو آراستہ کرنا، سجانا، کی تزئین کرنا، سج دھج کرنا، کی زیبائش کرنا۔۔۔ ہ و ہ: کو اعزاز بخشنا، کو مشرف کرنا۔۔۔ ہ: کی شیو کرنا۔زَیَّنَتْ نفسَھا: (عورت کا) میک اپ کرنا۔۔۔ ہ إلی / ل: کو مناسب حال روشنی میں کے روبرو پیش کرنا۔۔۔ ہ ل: کو کسی کی آنکھوں کے سامنے خیال میں لا کھڑا کرنا، کسی کے ذہن میں کسی چیز کا تصور پیدا کرنا۔۔۔ ل أن: کو خیال دلانا کہ، کو کچھ کرنے کے خیال دینا یا دلانا۔تَزَیَّنَ: آراستہ ہونا، سجنا، خوش پوش ہونا۔بناؤ سنگار کرنا، بننا سنورنا، بن سنور کر نکلنا، شیو کرنا۔اِزْدَانَ: آراستہ ہونا، سجنا، مشرف ہونا۔

زَین: خوبصورتی، حسن، جمال، خوبصورت، دلکش، نفیس۔زِینَۃ جمع زِینات: سجاوٹ، تزئین، آرائش، زیبائش، زیور، کپڑے، پوشاک، لباس، بناؤ سنگار کا سامان، ہار سنگار۔زینۃُ الوجہ: میک اپ۔بیت الزینۃ: بیوٹی شاپ۔اشجارُ الزینۃ: زیبائشی درخت۔نباتات الزینۃ: زیبائشی پودے۔خُوَانُ الزینۃ: ڈریسنگ ٹیبل، سنگار میز۔غُرفۃ الزنیۃ: ڈریسنگ روم، سنگار کا کمرہ۔زَیّان: خوبصورت۔

زِیان: سجاوٹ، تزئیں، آرائش، زیور، زیبائش، آراستگی، زِیانَۃ: نائی کا پیشہ۔تَزیِین: سجانا، آرائش، زیبائش، فرضی بات، بناوٹ، دکھاوا، تصنع، بہانا۔مُزَیِّن: نائی، حجام، اصلاح ساز، باربر، ہیئر ڈریسر۔مُزَیَّن: سجایا ہوا۔آراستہ کیا ہوا۔۔۔ ب: سے مشرف، سے آراستہ کیا ہوا۔سے زیبائش کیا ہوا، سے خوبصورت یا خوشنما بنایا ہوا۔مُزْدَان ب: ایضاً

زیا: زَیَّا تزیِیَۃً ہُ: کو پوشاک پہنانا۔حذہ زائی فزَیّھا: یہ (ز) ہے اسے ز کے ساتھ پڑھ۔تَزَیَّا: پوشاک پہننا۔و۔بزی القوم: قوم کا لباس پہننا۔الزِیّ جمع اَزیَاء: پہننے کی ہیئت یا شکل۔اقبَلَ بزیّ العَرَب و جاء نا بزی غریب: وہ عرب کے لباس میں آیا اور وہ ہمارے پاس عجیب لباس میں آیا۔

○ زِینکو: زنک (Zinc) جست۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

س

س تلفظ سین: حروف تہجی میں بارہواں اور حروف ابجد میں ساٹھ کی تعداد ظاہر کرتا ہے۔ حرف سین مضارع پر داخل ہو کر اسے مستقبل قریب کے لئے مخصوص کر دیتا ہے۔ سوف کے ساتھ اس کے مستقل کی مدت کمتر ہے۔ اسے صرف تنفیس یعنی توسیع کا حرف کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مضارع کو تنگ وقت سے وسیع مدت میں منتقل کر دیتا ہے جو مستقبل کا زمانہ ہے۔

سأب: سَأَب ـ سَأْباً ہُ : (کا) گلا گھونٹنا۔ ـــ السقاءَ: مشک کو فراخ کرنا، ـــ و سَئِبَ ـ سَأَبًا من الشراب: پانی سے سیراب ہونا۔ السَأْب (مص): جمع سُؤُوب: بڑی مشک۔ السُؤبان: مال کا اچھا منتظم المِسْأَب : بڑی مشک، بہت پانی پینے والا۔

سأت: سَأَتَ ـ سَأْتاً: (کا) گلا گھونٹنا۔ السَأْت (ع ا): گلے کا پہلو تثنیہ: سأتین :

○ ساج جمع سیجان: ساگوان۔

○ ساتن: سائن: (ایک قسم کا کپڑا)

سأد: سَأَد ـ سَأْدًا و سَأَدًا ہُ: کا گلا گھونٹنا۔ سُئِدَ: کھاری پانی پینے سے بیمار پڑ جانا۔ مَسْؤُد: کھاری پانی پینے کی وجہ سے بیمار۔ سَئِدَ ـ سَأَدًا : پینا۔ ـــ الجرحُ: زخم کا کھل جانا اور خراب ہونا۔ سَئِید: کھلا اور خراب زخم۔ أسْأَدَ إسْآدًا : ساری رات چلنا۔ کہتے ہیں۔ أسعَدَ یومَہُ إسعادًا مَنْ أسْأَدَ لیلتَہُ إسآدا: جو ساری رات چلا اس نے اپنے دن کو مبارک بنا دیا۔ السُؤاد (طب): کھاری پانی پینے سے پیدا ہونے والی بیماری۔ السُؤْدَۃ: جوانی کا باقی حصہ

○ سادۃ: سادہ، صاف، یک رنگا، یکساں

○ قھوۃ سادہ: قہوہ (بغیر چینی ملائے)

سأر: سَأَرَ ـ سَأْرًا و أسْأَر الشاربُ فی الأناء : پینے والے کا برتن میں کچھ باقی رہنے دینا، جوٹھا چھوڑنا۔ سَأْر: جوٹھا۔ باقی بچا ہوا۔ کہا جاتا ہے اسأر الحاسب فی حسبه: حساب کرنے والے نے حساب پوری طرح نہیں کیا۔ سَئِرَ ـَ سَأْراً الشیءُ: چیز کا باقی رہنا۔ تَسَأَّرَ النبیذَ: جوٹھا نبیذ پینا۔ السُؤْر جمع أسآر: برتن میں بچا ہوا پانی۔ باقی ماندہ۔ جوٹھا۔ کہا جاتا ہے۔ ھو سُؤرُ شرٍ: وہ شریر ہے۔ السُؤْرۃ جمع سُؤَر: جوانی کا بقیہ۔ ـــ من المال: عمدہ مال۔ السائر (فا) من الشیءَ: چیز کا بقیہ۔ باقیماندہ حصہ۔

○ الساسانیون: ساسانی۔ فارس کے شاہوں کا خاندان۔

سأسأ: سَأْسَأ سأۃً بالحمار: گدھے کو روکنے کے لئے ڈانٹنا یا پینے اور چلے جانے کے لئے بلانا۔ عام بول چال میں۔ سأسأ الماءُ: پانی ہلکے ہلکے بہنے لگا۔ تَسَأْسَأتِ الامورُ: امور کا مختلف ہونا

سأف: سَأَفَ ـ سَأَفاً تْ یدُہُ: ہاتھ کا ناخن کے اردگرد سے پھٹنا، تڑخنا۔ سَئِفه: ناخن کے اردگرد سے پھٹا ہوا ہاتھ۔ سَئِفَ ـ سَأَفات یدُہُ: ہاتھ کا ناخن کے اردگرد سے پھٹنا۔ و۔ و۔ انْسَأَفَ لیفُ النخل: کھجور کے پتوں وغیرہ کا پھٹنا، چھلنا۔ السَأف : کھجور کی شاخ، دُم کے بال۔ السَائِفة: جمع سَوَائِف: نیچے کی باریک ریت

○ ساغو: ساگودانہ، سالودانہ

○ ساکو و ساکوہ: عام کوٹ، عام جیکٹ

سأل: سَأَلَ ـ سُؤَالاً و سَأَلَۃً و سَآلَۃً و مَسْأَلَۃً و تَسْآلاً : مانگنا، چاہنا، طلب کرنا، درخواست کرنا، عطیہ مانگنا۔ سألتُ اللّٰہَ نعمۃً : (میں نے اللہ تعالیٰ سے نعمت مانگی)۔ سألتُہُ عن حالِہِ: میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ کبھی ہمزہ کی تخفیف ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے۔ سَالَ یسال سَلْ: جیسے خاف یخاف خَفْ۔ اس سے اسم مفعول مَسُول ہوتا ہے، جیسے مخوف۔ سَاءَلَ و سَایَلَ مُسَاءَلَۃً و مُسَایَلَۃً ہُ و سَاءَلَ عنہ: بمعنی سَأَلَ۔ أسْأَلَ ہُ سُؤْلَہٗ و سُؤْلَتَہٗ و مَسْأَلَتَہٗ : کی حاجت روائی کرنا، کی ضرورت پوری کرنا۔ تَسَأَّلَ و تَسَوَّلَ : مانگنا۔ تَسَاءَلَ و تَسَاوَلَ القومُ : لوگوں کا ایک دوسرے سے دریافت کرنا، پوچھنا۔ السُؤْل والسُوْل والسُؤْلَۃ و السُولَۃ : التجا، درخواست۔ السَأَّال و السُؤَلَۃ والسَؤُوْل: بہت پوچھنے والا۔ السَائِل جمع سائِلون و سُؤَّال و سُؤَل والسَأَلۃ : مانگنے والا، بھکاری المَسْأَلَۃ : جمع مَسَائِل: حاجت، مطلب۔

○ سوال: مسئلہ، ایشو، مشکل، معاملہ، قضیہ، کام بات، درخواست مُسَاءَلۃ: پوچھ گچھ۔ تفتیش۔ تَسَوّل: بھیک مانگنا، سخت ناداری۔ مَسْئُولِیۃ: ذمہ داری عن (کی) مُتَسَوّل: بھکاری۔ سُؤَال عن : کے متعلق سوال کی درخواست۔ سوال عن: کے متعلق سوال۔ سأل ـ ہُ ہ او عن : سے کچھ پوچھنا یا اس کے متعلق پوچھنا۔ سألہُ عن : سے کے متعلق دریافت کرنا۔ سألہُ او منہ شیئا : سے کوئی شے طلب کرنا۔ سألہُ او منہ شیئا : سے کی درخواست کرنا، سے کا مطالبہ کرنا، سے کا دعویٰ کرنا۔ سأل ہ عن اخبارہ: سے کسی دوسرے کے بارے میں دریافت کرنا۔ سأل ہ رأیَہُ : سے اس کی رائے پوچھنا، سے مشورہ کرنا۔ سأل ہُ سؤالا : سے سوال کرنا یا پوچھنا۔ یُسْأَلُ عن : وہ کے متعلق جواب دہ ہے، کام کا ذمہ دار ہے۔ تساءل ھل عن: اپنے آپ سے پوچھنا، کے متعلق،

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کیا۔ تساءل عن : کے متعلق دریافت کرنا۔

○ سام : حضرت نوح کے بڑے بیٹے کا نام، سامی: سام کی نسل کا۔

سام: سَئِمَ - سَاٰمَةً و سَاٰمًا و سَاْمَةً و سَاْمًا و سآمَةً الشئَ و منه : سے اکتاجاتا، بور ہونا، بیزار ہونا، سے تھک جانا۔ سؤوم : متنفر، بیزار، تھکا ہوا، اکتایا ہوا۔ اَسْأَم إِسْآمَةً : کو بور کرنا، میں اکتاہٹ پیدا کرنا یا بیزاری کا باعث ہونا، کو تھکا مارنا۔

○ سَئِم تھکا ہوا، اکتایا ہوا، بیزار

○ سآمة: تھکاوٹ، اکتاہٹ بیزاری، بوریت۔

سأ: ا۔ سأا یسأ و سأوًا : دوڑنا و - الشيءَ : کا ارادہ کرنا قصد کرنا۔ السأو (مص) : وطن، وہ جہت جس کی طرف جانے کا ارادہ کیا جائے۔ ہمت، عزم ارادہ، پختہ ارادہ، سرگرمی شوق، جوش، کہتے ہیں، ھو بعید السأو : وہ بڑا باہمت وحوصلہ ہے۔

۲۔ سأ یسأ و سأوًا الرجلَ : کو رنجیدہ کرنا۔ الثوبَ : کپڑے کا پھیلانے سے پھٹ جانا و۔ بینھم : کے درمیان فساد برپا کرنا۔

سبّ ۔ ا۔ سَبَّ - ُ سَبًّا و سِبِّیبَی ُ : کو سخت گالی دینا، کی اہانت کرنا، بیعزتی کرنا، توہین کرنا، تنگ کرنا۔ سَبَّبَ ہُ: کو سخت گالی دینا، کی خوب توہین کرنا، بے عزتی کرنا، سَابَّ مُسابَّةً و سِبابًا ہُ : کو گالی دینا، کی بے عزتی کرنا، کی اہانت کرنا۔ تَسابَّ الرجلان : ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا اور گالی دینا ایک دوسرے کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا۔ اِستبَّ القومُ: باہم گالی گلوچ کرنا۔ اِستَسَبَّ لہُ : کو گالی گلوچ کے لئے پیش کرنا، یا کھینچ کرلے جانا۔ السِب و السُبَّة و المَسَب و المَسَبَّة: بہت گالی دینے والا۔ السُبَّة: جسے لوگ بہت گالیاں دیں، عار، بے عزتی۔ السَبّاب م سبّابة: بہت گالیاں دینے والا۔ الاُسبوبة: گالی کا باعث کہتے ہیں۔ بینھم اُسبوبَةٌ یتسابّون بھا : یعنی ان کے درمیان ایک دوسرے کو گالی دینے کا کوئی نہ کوئی باعث ہے۔

۲۔ سَبَّ - ُ سَبًّا الحبلَ : رسی کاٹ ڈالنا۔ سَبَّبَ الاسبابَ۔ اسباب پانا۔ للماءِ مجرًی : پانی کے لئے نالی درست کرنا۔ الامرَ : کسی امر کا سبب بننا۔ تَسَبَّبَ: اسباب تلاش کرنا۔ بہ الیہ: کا وسیلہ بننا۔ ۔ بالامر : کا سبب بننا۔ اِستَسَبَّ لہُ الامرُ : کا معاملہ درست ہونا۔ السِبّ : جمع سُبُوب : رسی، ڈوری۔ کتان کا باریک ٹکڑا، پردہ، پگڑی، میخ۔ السَبَبُ جمع اَسْباب ذریعہ ۔ راستہ۔ (کہاجاتا ہے۔ مالی الیہ سببٌ : میرے پاس اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں)۔ رسی کیونکہ اس کے ذریعہ پانی تک رسائی ہوتی ہے۔ کہاجاتا ہے۔ قطع اللّٰہُ بہ السبَبَ: اللہ تعالیٰ نے اسکی زندگی ختم کردی)۔ دوستی، قرابت داری کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ تقطعت بھم الاسبابُ : انکی دوستیاں اور تعلقات کٹ کر رہ گئے، کہاجاتا ہے۔ تعاطیَ الاسبابَ: اس نے امور معیشت کے اسباب مہیا کئے۔ انقطعت عنہ الاسبابُ: اس کے معیشت کے ذرائع جاتے رہے۔ اسبابُ السماءِ : آسمان کی نگرانی کے برج اور اس کے کنارے۔ السَبِیبُ: بالوں کی لٹ، زلف، گیسو و۔ من الفرس جمع سَبائِب: گھوڑے کی دم اور اسکی پیشانی کے بال۔ ایال، کہاجاتا ہے۔ قدعقد و اسبائب فیلھم: انہوں نے اپنے گھوڑوں کی ایالوں میں گرہیں لگائیں۔ السَبِیبَة جمع سَبائِب : بالوں کی لٹ، کتان کا باریک ٹکڑا۔۔ من الفرس : ایال گھوڑے کی دم اور اسکی پیشانی کے بال۔ المُتَسبِّب عند المولّدین : (جدید عرب ادباء کی رائے میں) پرچون فروش، خوردہ فروش۔

○ سببٌ اکبر : بڑی یا اصل وجہ اسباب الحکم : رائے اسباب الراحة : عیش وعشرت کی زندگی، تکلفات۔ بِسبب : کی وجہ سے، کے باعث، کے سبب سے بِسبب ذلک : اس وجہ سے، لہٰذا، کے باعث کان السبب فیہ : کا باعث ہونا، کا قصور وار ہونا، مورد الزام ہونا۔ یرجع السبب الی : کی وجہ یہ ہے۔ اخذ باسباب الحضارة الحدیثة : عصری تہذیب اختیار کرنا۔ وصل اسبابُہ باسبابہ : سے مل کر کام کرنا۔ تقطعت الاسبابُ بین : کے درمیان تعلقات منقطع ہیں۔ شاطرہُ اسبابَ المسرة : کی خوشی میں شریک ہونا۔ سَبَبِیّة: علت ومعلول کا سلسلہ۔ سَبّابة : انگشت شہادت، انڈکس فنگر (Index finger) مُسَبِّبات : سبھی عوامل۔ السبب و المسبَّب. علت ومعلول (Cause and effect)

۳۔ سَبَّ ۔ سَبًّا و سِبِّیبی ُ : کے مقعد میں نیزہ مارنا ۔۔ سَبًّا الفرسَ: گھوڑے کی کونچیں کاٹنا۔ السَبَّة: مقعد۔

۴۔ السبب جمع اسباب فی العروض، علم عروض میں دو متحرک حرف جیسے لِمَ یا ایک متحرک اس کے بعد ساکن حرف جیسے لَمْ۔ السَبَّة من الحر او البرد والدھر : عرصہ۔ السِبَّة: ہفتہ (سریانی لفظ) و۔ والسَبّابة و المِسَبَّة: انگشت شہادت۔

۵۔ سَبَّ الماءَ : پانی بہانا۔ و الرجلُ ...

چلنا۔ تَسَبْسَبَ الماءُ : پانی کا بہنا۔

۶۔ سَبْسَبَ الرجلُ : نہایت گندی گالی دینا۔

۷۔ السَبْسَب جمع سَباسِب : بیابان، ریگستان، دور کی ہموار زمین کہتے ہیں: ارضٌ سَباسِب یا سُباسِب : بیابان۔ السَبَاسِب : عید فصح سے پہلے اتوار کی عید کے ایام۔

سبأ: ا۔ سَبَأَ - سَبْأً و سِبَاءً و مَسْبَأً و اِسْتَبَأَ اِستِباءً الخمرَ : شراب پینے کے لئے خریدنا۔ السِباء و السَبِیئة: شراب، خمر۔ السَبّاء: شراب فروش۔

۲۔ سَبَأَ - سَبْأً و سِبَاءً و مَسْبَأً الجلدَ : کھال کھینچنا، اتارنا۔ الجلدَ بالنار: کھال کو آگ سے جلانا۔ ۔ الرجلَ: کو کوڑے لگانا۔ و۔ النارُ الجلدَ: آگ کا کھال کو جھلسنا۔ اِنسبأ الجلدُ : کھال کا اترنا، چھلنا۔ السُبْأة: لمبا سفر، دور کا سفر۔ السِبی من الحیّة: سانپ کی کینچلی۔ المَسْبأ: پہاڑی راستہ یا عام راستہ۔

۳۔ سَبَأَ - سَبْأً و سِباءً و مَسْبَأً الرجلَ: کے ساتھ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا۔

۴۔ اَسْبَأَ لامر اللّٰہ : اللہ کے حکم کے لئے جھک جانا ۔۔۔ علی الشر: شرارت پر کمر بستہ ہونا شرارت کرنا۔

○ سبا و سبأ : شیبا Sheba : ذھبوا ایدی (ایادی سبا) : وہ چاروں طرف بکھر گئے۔

○ سَبانَخ : پالک (سبزی)

سبت: ا: سَبَتَ - ُ سَبْتًا : ہفتہ کے دن میں داخل ہونا، سبت منانا، آرام کرنا۔ الرجلُ: حیران ہونا۔ سُبِتَ الرجلُ: کو نیند آنا۔ اَسْبَتَ : ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔ اِسْتَبَتَ: سبت منانا۔ السَبْت (مص) : جمع اَسْبُت و سُبُوت : جمعہ اور اتوار کے درمیان کا دن یعنی ہفتہ۔ ۔۔: بہت سونے والا۔ السُبات : نیند یا اونگھ۔ المَسْبُوت (فا) : وہ شخص جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہل جل نہ سکے اور نہ آنکھیں کھولے۔ ست، کاہل، بے حس وحرکت۔ المَسبوت (مفع) : مردہ یا بیہوش۔

۲۔ سَبَتَ - ُ سَبْتًا الشيءَ : کو قطع کرنا۔ الرأسَ: سر مونڈنا ۔۔ عنقہُ : کی گردن پر مارنا۔ گردن مارنا۔ اِنسَبَتَ الجلدُ : کھال کا نرم ہونا۔ السِبت : رنگی ہوئی کھال۔

۳۔ سَبَتَ ُ سَبْتًا الشعرَ : بال کھلے چھوڑنا۔ اِنسَبَتَ الشيءُ: چیز کا لمبا ہونا، پھیلنا ۔ الوجہُ : چہرے کا لمبا ہونا۔ السُبْت: زمانہ۔ السَبْتَة : زمانہ کا ایک عرصہ۔ السُبات : زمانہ۔ اِبنا سُبات : رات اور دن۔ السَبْتاء : صحراء، دراز کان والی۔ السَبَنتاۃ : زبان دار عورت۔

السَبْت: عمدہ گھوڑا، دلیر لڑکا، چالاک آدمی۔ و السُبْت.

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خطمی کی مانند ایک پودہ۔ السُبات: چالاک آدمی۔ السِبْتان: احمق، بے وقوف۔ السَبَنْتی جمع سَبَانِت و سَبَاتی م سَبنتاۃ بہادر، آگے بڑھنے والا، چیتا۔

○ سَبَت: جمع سبتات و اَسْبِتَة: ٹوکری

○ سِبْتَمْبَرُ ستمبر: انگریزی نواں مہینہ۔

○ سَبَج: سنگ موسیٰ

سبج: تَسَبَّجَ سیاہ چادر یا گدڑی اوڑھنا۔ السَبَح: سیاہ منکے۔ السُبْجَة جمع سُبَج سیاہ چادر یا گدڑی۔ السَبَّاج سیاہ چادریں یا گدڑیاں بیچنے والا۔ سیاہ کمبل بیچنے والا۔ ثَوْبٌ مَسَبَّجٌ: چوڑے عرض کا کپڑا۔

سبح: ۱۔ سَبَحَ - سَبْحاً: دور تک نکل جانا۔ و۔ فی الکلام: بہت باتیں کرنا۔ و۔ فی الارض: زمین کھودنا۔ ــ القومُ قوم کا زمین میں پھرنا اور پھیل جانا ــ سَبْحًا و سِبَاحَةً فی الماء/ بِالْمَاء پانی میں تیرنا۔ ستاروں اور گھوڑوں وغیرہ کے لئے اس لفظ کا استعمال بطور استعارہ کیا جاتا ہے۔ اَسْبَحَ ہُ کو تیرانا۔ السَبْحَة سَبَحَ کا اسم مرۃ۔ السابح: جمع سابحون و سُبَّاح و سُبَحَاء م سَابِحة جمع سَابِحَات و سَوَابِح (فا) تیرنے والا۔ تیراک۔ ــ من الخیل: تیز رفتار گھوڑا۔ السوابح تیز رو گھوڑے السَابِحَات: کشتیاں۔ ستارے السَبَّاح سابح کا اسم مبالغہ۔ زبردست تیراک۔ السَبُوح: جمع سُبَحَاء: تیرنے والا۔ فَرَسٌ سَبُوحٌ تیز رو گھوڑا ثَوبٌ مُسَبَّح: بہت مضبوط کپڑا۔

۲۔ سَبَّح - سُبْحَانًا: ''سبحان اللہ'' کہنا۔ سَبَّحَ تسبیحًا: نماز پڑھنا۔ ''سبحان اللہ'' کہنا۔ و۔ اللّٰہَ و لِلّٰہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ و تمجید کرنا۔ السُبْحَة جمع سُبَح و سُبُحات: دعاء قضیتُ سُبْحَتی: میں نے اپنی دعا پوری کر لی۔ نافلہ نماز۔ تسبیح سُبْحَةُ اللّٰہ: اللہ تعالیٰ کا جلال۔ سُبُحاتُ وجهِ اللّٰہ اللہ تعالیٰ کے انوار۔ سُبحان (مص) کہتے ہیں سُبْحَانَ اللّٰہِ: میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و برائی سے مبرا کہتا ہوں۔ سُبْحَانَ مِن کذا تعجب کے لئے ہے۔ مراد سُبحانَ اللّٰہ من کذا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے بے عیب اور پاک ٹھہراتا ہوں۔ مفعول مطلق کی وجہ سے منصوب ہے۔ کہتے ہیں۔ انت اعلمُ بما فی سبحانك تم اپنے دل کی بات بہتر جانتے ہو۔ التَسْبِحَة: (مص) جمع تسابیح کلامِ تسبیح السَّبَّاحة: انگشت شہادت۔

السُبُّوح والسَبُّوح بصفات باری تعالیٰ میں سے ہیں کیونکہ اسکی تسبیح کی جاتی ہے۔ المِسْبَحَة: تسبیح المُسَبِّحَة: بمعنی السَبَّاحة۔

۲۔ سَبَحَ - سَبْحًا الرجلُ: اپنی روزی کمانے کا بندوبست کرنا، انتظام کرنا، سونا، خاموش ہونا۔ ــ عن الامر سے فارغ ہونا۔

۴۔ السَبْحَة: کھال کے کپڑے۔

۵۔ سَبْحَلَ سَبْحَلَةً: ''سبحان اللہ'' کہنا۔ السِبَحْل: ضخیم جاریةٌ سِبَحْلَة: طویل اور لحیم شحیم لونڈی۔

۶۔ سَبْحَنَ: ''سبحان اللہ'' کہنا۔

○ سُبْحَانَ اللّٰہِ عن اللہ تعالیٰ ۔ سے بہت بلند ہیں، سے ماوراء ہیں۔

○ مَسْبَح: جمع مَسَابِح: تیرنے کا تالاب (Swimming pool) سابحٌ فی افکارہ اپنے خیالات میں کھویا ہوا۔

○ سابحة: بے انجن طیارہ۔ glider بازیابی جہاز۔ باربردار جہاز۔ مُسَبِّحَة: انڈکس فنگر۔

سبخ: ۱۔ سَبَخَ - سُبُخًا: فارغ ہونا۔ گہری نیند سونا۔ سَبَّخَ الرجلُ فارغ ہونا، گہری نیند سونا۔

۲۔ سَبَخَ - سَبْخًا دور ہونا۔ سَبَّخَ عنه ہلکا کرنا۔ کہتے ہیں۔ اللّٰھم سَبِّخ عنی الحمی او الشِدَّة: اے اللہ! میرا بخار یا سختی ہلکی کر دے۔ ــ الحَرّ گرمی کو ٹھنڈا کرنا۔ ــ العِرقُ رگ کا ساکن ہونا۔ ــ الحرُّ گرمی کا کم ہونا، ہلکا ہونا، تَسَبَّخَ الحرُّ او الغضبُ گرمی یا غصہ کا ٹھنڈا ہونا۔

۳۔ سَبَّخ القطنَ ونَحْوَہُ: روئی وغیرہ دھننا۔ السَبِيخ: دھنی ہوئی روئی یا بکھرے ہوئے پر وغیرہ۔ السَبِيخة ح سبائخ دھنی ہوئی روئی یا بکھرے پروں کا ایک گالا یا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ طارت سبائخ القطن دھنی ہوئی روئی کے گالے اڑ گئے۔

۴۔ سَبِخَ - سَبَخًا المکانُ کسی جگہ کا شورے والی ہونا۔ سَبِخ: شوردار۔ أَسْبَخَ فی الحفر: کھودنے میں زمین شور تک پہنچنا۔ و۔ المکانُ جگہ کا شورے والی ہونا۔ السَبْخة و السَبَخة ج سِباخ: نمکین دلدلی زمین۔ کائی کے مانند پانی کے اوپر آ جانے والی چیز۔ ارضٌ: سَبْخَةٌ جمع سِبَاخ و سَبِخَةٌ جمع سَبِخَات: شور زمین۔ السِبَاخ من الارض: زمین جسے جوتا اور آباد نہ کیا گیا ہو۔

○ سَبَّخ الارض زمین کو زرخیز کرنا، بار آور کرنا، زمین میں کھاد ڈالنا۔

سَبَخ: گوبر، کھاد، کیمیائی کھاد۔ سَبَخ بلدی: کھاد۔

سَبِخ: کھاری یا نمکین (مٹی) سَبَخة و سَبْخَة جمع سِباخ: کھاری دلدل۔ ارض سبخة نمکین یا کھاری زمین۔ سِبَاخ: جمع اَسْبِخَة: گوبر، کھاد۔ کیمیائی کھاد۔ سباخ بلدی: کھاد جمع سَبائِخ ڈھیلی یا نہ کاتی ہوئی روئی۔

سبد: ۱۔ سَبَدَ - سُبُدًا الشَعَرَ بال مونڈنا۔ سَبَّدَ شَعَرَہُ: بالوں کو مونڈنا۔ ٹنڈ کرنا۔ (ضد) اَسْبَدَ الشَعَرَ: بالوں کو مونڈنا۔

۲۔ سَبَدَ - سَبْداً شاربُہُ: مونچھوں کا بڑی ہو کر ہونٹوں پر آ جانا۔ سَبَّدَ الشَعَرُ مونڈنے کے بعد بالوں کا اُگ آنا (ضد) و۔ الرجُلُ سر میں تیل لگانا چھوڑ دینا۔ و۔ رأسَہُ: سر میں کنگھی کرنا۔ تر کرنا اور پھر چھوڑ دینا۔ الفرخُ چوزے کے پر نکلنا اور سخت ہونا۔ و۔ العشب پرانی گھاس میں نئی گھاس کا اُگ آنا۔ اَسْبَدَ العشبُ پرانی گھاس میں نئی گھاس اُگ آنا۔ السَبَد ج اَسْبَاد کم بال۔ کہتے ہیں۔ (مالہُ سَبَد ولا لَبَد): اس کے پاس نہ تو بال ہیں نہ صوف یعنی کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اَسْبَاد العشب سبزہ کی نئی نکلی ہوئی نوکیں یا سرے۔ السَبِد: سبز گھاس کا بقیہ۔ السُبَد جمع سِبْدان (ح): ایک قسم کا پرندہ۔

۳۔ السِبْد جمع اَسْبَاد (ح): بھیڑیا۔ مصیبت کہتے ہیں۔ ھو سِبْدٌ من الاَسباد وہ بڑا شاطر چور ہے۔ الأَسْباد سیاہ کپڑے۔ السُبَد: جمع سِبدان بدبختی حوض کی نالی کا کپڑے کا ڈاٹ۔

۴۔ السَبَنْدَی جمع سَبَانِد و سَبَانِدَہ لمبا، بہادر، (ح) چیتا۔ السَبانِدة: کھیل کود میں مصروف رہنے والے لوگ۔

سبر: ۱۔ سَبَرَ - سَبْرًا و اَسْبَر و اِسْتَبَرَ الجرحَ او البئرَ او الماءَ زخم، کنوئیں یا پانی کی گہرائی کا پتہ لگانا، جانچ کرنا، کہتے ہیں۔ ھذہ مفازة لاتُسْبَرُ: اس بیابان کی وسعت نامعلوم ہے۔ ــ الامرَ کا تجربہ کرنا۔ کھوک بجا کر دیکھنا، جانچنا، آزمانا۔ السَبْر و السِبْر: اصل، رنگ، ہیئت۔ (کہتے ہیں۔ فلانٌ حَسَنُ الحِبْرِ والسِبْر فلاں خوش ہیئت اور خوبصورت ہے۔ رأیتُہُ سَیِّءَ السِبْرِ میں نے اسے پیلا اور بے رونق دیکھا) مشابہت، کہتے ہیں: قد غلب علیه سِبْرُ فلان: اس میں فلاں کی مشابہت غالب ہے) حسن، خوبصورتی، جمال السِبَار جمع سُبُر و المِسْبَر جمع مَسَابِر و مسابیر زخم کی گہرائی معلوم کرنے کی سلائی۔ المَسْبَر ہیئت و حسن و جمال۔ کہتے ہیں۔ حمدتُ مَسْبَرَہُ و مَخْبَرَہُ: میں نے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اسکی وضع قطع کی تعریف کی لیکن آزمائش کرکے نہیں
جانا۔ المِسْبَار: جمع مَسَابِر و مسابیر وہ آلہ
جس سے گہرائی ناپی جائے۔ زخموں کی گہرائی معلوم
کرنے والا۔ مَسْبَرَةُ الجرح زخم کی گہرائی۔ المِسْبَرَة:
آزمائش، جانچ پڑتال۔ المَسْبُور (مفع): خوش
قامت، خوش وضع۔

۲۔ السَّبَر: جمع أسْبَار شیر۔ السَّبْرَة: جمع سَبَرات:
ٹھنڈی صبح۔ السِّبْرو ثمنی السُّبَر والسُّبْرَة (ح)
ایک لمبے بازوؤں والا شکاری پرندہ۔ السِّبَار
(ح) افریقہ کا ایک درندہ جو بجو کی شکل کا ہوتا ہے۔
السبارة ایک قسم کا جہاز۔ السَّابِرِیّ عمدہ باریک
کپڑا۔ بلاد فارس میں ایک قصبہ سابور سے منسوب۔
یعنی سابور کا۔ بڑھیا کھجور۔ باریک بناوٹ کی مضبوط
زرہ۔ السَّابُورة (ب) کھجور کے پتوں کا بڑا ٹوکرا
جو مٹی ڈھونے کے کام آتا ہے۔ السَّبُّورة سلیٹ، اس
کا معروف نام لوح الحجر ہے۔

۳۔ سَبَرَتِ الرجل قناعت کرنا۔ السُّبْرُوتُ والسِّبْرِیت
والسِّبْرَاتِ جمع سَبَارِیت۔ و سَبَار مسکین و
محتاج۔ السُّبْرُوت مسکین محتاج۔ تھوڑی چیز، امرد
لڑکا۔ وہ لڑکا جسے ابھی داڑھی نہ آئی ہو۔ و۔ من الارض:
چٹیل ریگستان۔ المُسْبَرَت: بے بال شخص۔

○ سَبُّورَة: سلیٹ۔ بلیک بورڈ۔

○ سَبَرَ اغوارَ الشیء کی گہرائی میں جانا، کی تہہ تک
پہنچنا کا مکمل مطالعہ کرنا۔

○ سِبَار: جمع سُبُر (طب) زخم سلائی۔ مِسْبَر جمع
مَسَابِر ایضاً مِسبار: جمع مسابِر ایضاً۔

○ سِبِس الفوزہ جیسا ایک چھوٹا باجا۔

○ تَسَبْسَبَ (بالوں کا) سیدھا ہونا، (آنسوؤں کا) بہنا۔

○ سَبْسَب جمع سَبَاسِب بیابان، بنجر زمین۔ قفر
سبسب بیابان، ریگستان، بنجر زمین، اجاڑ، سنسان،
بے آباد علاقہ۔

سبط: اسْبَطَ - سَبْطاً و سَبَاطاً و سُبُوطاً و سُبْط
سُبُوطَةً و سَبَاطَةُ الشَّعْرُ بالوں کا سیدھا ہونا۔
(یعنی گھونگھریالے نہ ہونا) السَّبْط والسَّبِط من
الشعر جمع سباط سیدھے بال (گھونگھریالے
بالوں کا الٹ) کہتے ہیں۔ ھو سَبْط الجسم یعنی
وہ معتدل کاٹھی اور خوبصورت قد کا مالک ہے۔
السِّبط جمع أسْبَاط اولاد کی اولاد مگر زیادہ تر
نواسے کے لئے مستعمل ہے۔ یعنی پوتے کے مقابلہ
میں جو بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے۔ اور السِّبط یعنی شجرہ سے
مشتق ہے۔ و۔ من الیھود یہود کا قبیلہ۔ السَّبَط
بہت شاخوں اور ایک جڑ والا درخت۔ تر و تازہ یعنی
گھاس۔ شعرٌ سَبْطٌ سیدھے بال۔ السُّبَاطَة:
کنگھی کرنے پر گرنے والا بال۔ کوڑا کرکٹ۔ گھورا۔

۲۔ سُبِطَ سَبْطاً بخار ہونا۔ سُبَاط: بخار۔

۳۔ سَبُطَ - سُبَاطَةً المطرُ: دور دور اور خوب بارش
ہونا۔ السَّبْط من المطر جمع سِبَاط شدید بارش
کہتے ہیں۔ ھو سَبْطُ الیدین او سَبْطُ البَنَانِ وہ
بہت سخی ہے۔ فیاض ہے۔

۴۔ سَبَّطَتِ الناقة او النعجة: اونٹنی یا بھیڑ کا ناتمام
بچہ گرانا۔ مُسَبِّط: ایسی اونٹنی یا بھیڑ (جو ناتمام بچہ
گرائے)۔

۵۔ اَسْبَطَ گر کر نہ ہل سکنا، خوف سے خاموش رہنا۔ —
بالأرض زمین سے چمٹنا۔ کمزور ہونا۔ — عن الامر
سے غفلت برتنا۔ و۔ فی نومہ نیند میں آنکھیں بند
کرنا۔

۶۔ سُبَاط: جسے شُبَاط بھی کہا جاتا ہے۔ فروری:
انگریزی میں سال کے دوسرے مہینہ کا نام۔
السَّابُوط: (ح) ایک سمندری جانور۔ السَّابَاط:
جمع سَوَابِط و ساباطات: وہ چھت جو دو مکانوں
کے درمیان راستہ میں ہو۔ آرکیڈ، مسقف راستہ۔
مسقف گلی۔ محرابی راستہ۔

○ سِبَاط و سُبَاط: آرکیڈ، مسقف راستہ، مسقف گلی،
محرابی راستہ۔ السَّبَطَانة نئے کی طرح کی نلکی جس
میں غلہ رکھ کر پرندہ کو مارتے ہیں۔

۷۔ اِسْبَطَرَّ اِسْبِطْرَاراً دراز ہو کر لیٹنا۔ — تْ له البلادُ:
کے لئے ملک کا درست ہونا۔ — تِ الابل اونٹوں کا
تیز چلنا۔ السِّبَطْر سیدھا پھیلا ہوا طویل، سخت تیز۔
اسدٌ سِبَطْرٌ جست لگاتے وقت دراز ہونے والا
شیر۔ السِّبَطْرات کہتے ہیں۔ جمال سِبَطْرات:
زمین پر چلنے والے لمبے لمبے اونٹ۔ السُّبَاطِر
والسِّبَطْر دراز قد آدمی۔ السِّبَطْرِیّ مغرورانہ
چال۔

○ سُبَّاط: جمع سَبَابِط جوتا (Shoe) سُبَاطَة:
پھلوں کا خوشہ، گچھا۔

سبع: ۱۔ سَبَعَ - سَبْعًا القومَ کا ساتواں ہونا، کے مال
کا ساتواں حصہ لینا۔ — الحبلَ رسی کو سات لڑی
کرنا۔ — الشیءَ: کو سات بنانا۔ سَبَّعَ کو سات
بنانا یا سات گوشے والی بنانا۔ و۔ الاناءَ: برتن کو سات
بار دھونا۔ — اللہ لک: اللہ تجھے تیرا اجر سات
مرتبہ دے، یا سات گنا دے یا سات بچے دے۔
— ت المرأةُ عورت کا ساتویں مہینے بچہ جننا۔
القومُ: قوم کا، پورے سات سو افراد پر مشتمل ہونا۔
أسْبَعَ القوم کا سات ہونا۔ — الشیءَ کو سات
بنانا۔ — الرجلُ کے اونٹوں کا گھاٹ پر ساتویں دن
جانا۔ سَوَابِع ساتویں دن گھاٹ پر جانے والے
اونٹ۔ اِسْتَبَعَ القومُ: کا سات ہونا۔ السابع
(فا) جمع سَبَعَة و سابعون: (ع ج): ساتواں
سَبْعَة م سَبْع: سات السَّبْع سبعة کا مونث،
سات کہتے ہیں۔ طاف بالبیت سَبْعًا اس نے گھر
کا سات دفعہ طواف کیا۔ السبع المثانی سورۃ فاتحہ یا
سات پہلی سورتیں السُّبْع (ج) أسْبَاع: ساتواں
حصہ۔ حُمَّی السِّبْع: ساتویں دن چڑھنے والا بخار۔
السِّبْع اونٹوں کا ساتویں روز گھاٹ پر آنا۔ السُّبَاعِیّ:
سات گوشے والا سات حرفوں والا لفظ۔ مولودٌ سُبَاعِیّ:
ساتویں مہینے پیدا ہونے والا بچہ۔ ست ماہی (پنجابی)
السَّبْعُوْن: ستر (مذکر مونث دونوں کے لئے)
السَّبِیع: ساتواں حصہ۔ الأسْبُوع: جمع أسابیع:
ہفتہ (سات دن جن میں پہلا اتوار اور آخری سنیچر
ہے) المُسْبَع: سات ماہ کا بچہ۔ (وہ بچہ جس کی
ماں مر گئی ہو اور کوئی دوسری عورت دودھ دیئے)۔
المُسَبَّع (ہ): سطح جس کی گرد سات برابر ضلع ہوں۔
اگر یہ ضلعے برابر نہ ہوں تو اسے ذو سبعة اضلاع کہا
جائے گا۔

۲۔ سَبَعَ - سَبْعًا الرجلَ کی غیبت کرنا، کو گالی دینا۔
سَابَعَ مُسَابَعَةً و سِبَاعًا کو گالی دینا۔

۳۔ سَبَعَ - سَبْعًا الشیءَ: کو چرانا۔ اِسْتَبَعَ
الشیءَ: کو چرانا، کی چوری کرنا۔

۴۔ سَبَعَ - سَبْعًا الذئبُ الغنمَ بھیڑیے کا بکری
کو چیرنا پھاڑنا۔ سُبِعَتِ الوحشیّةُ جنگلی جانور
کے بچے کا درندہ کا لقمہ بن جانا۔ مَسْبُوعَة وہ جنگلی
جانور جس کے بچہ کو درندہ کھا گیا ہو۔ أسْبَعَ الراعی:
چرواہے کے مویشی میں درندہ کا کود پڑنا۔ و۔ المکانُ:
میں درندوں کا بہت ہونا۔ و۔ کو درندے کا گوشت
کھلانا۔ اِسْتَبَعَ الغنمَ بکری کو پھاڑ ڈالنا۔
السَّبُع و السَّبْع والسَّبَع: جمع أسْبُع و سِبَاع
و سُبُوع و سُبُوعة م سَبُعة و سَبْعَة درندہ۔
السَّبُع من الطیر شکاری پرندہ۔ یوم السبع یوم
قیامت أرضٌ مَسْبَعَة وہ زمین جہاں درندے کثرت
سے پائے جاتے ہیں۔ درندہ گاہ المَسْبُوع درندہ
سے ڈرا ہوا۔

۵۔ السُّبَاعِی بڑا اونٹ سُبَاعِی البدنِ پورے قد والا
آدمی۔ المُسَبَّع: بولا بیٹا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ سَبَّع شَيئًا: کسی چیز کو سات گنا کرنا، کسی چیز کو سات حصوں میں تقسیم کرنا۔
○ سَبُع جمع أسْبُع و سُبُوع و سُبُوعة: غارت گر جانور، درندہ، شیر۔
○ سَبْع جمع سِبَاع: غارت گر جانور، درندہ شیر۔
○ سبعة (مونث سَبْع): سات۔ سَبْعَةَ عَشَرَ (مونث سبع عشرة): سترہ۔
○ سُبْع و سُبُع: جمع أسْبَاع: ساتواں ایک بٹہ سات۔ سُبَاعی: سات حصوں پر مشتمل، سات حرفی لفظ۔
○ الترجمة السبعينية: عہد عتیق کا یونانی ترجمہ، ہفتاوی ترجمہ Septuagint سبعینی۔
○ أسْبُوع الآلام: حضرت مسیح کے مصائب کا ہفتہ (Passion Week)۔
○ اُسْبُوعی: ہفتہ وار اُسْبُوعیاً: ہر ہفتے، ہفتہ وار۔ أسْبوعية: ہفتہ وار فیچر (ریڈیو پر)۔

سبغ: ١۔ سَبَغ ـُ سُبُوغًا العيش: زندگی کا وسیع اور خوشگوار ہونا۔ و ـ الشیُ: کا پورا ہونا۔ أسْبَغ الله عليه النعمة: اللہ تعالیٰ کا کسی پر نعمت کو کامل کرنا ـ له النفقة: کسی پر فراخی سے خرچ کرنا۔ السَّابِغ: جمع سَوَابِغ (فا): مکمل۔ پورا، وافر، بہت، فزوں تر۔ السُّبْغة: فراخی، آسودہ حالی۔
٢۔ سَبَغ ـُ سُبُوغًا الثوبُ: کپڑے کا زمین تک دراز ہونا و ـ الی وطنه: وطن کی طرف مائل ہونا ـ المطرُ: بارش کا زمین سے قریب ہونا۔ أسْبَغ الثوب: کپڑے کو کشادہ اور لمبا کرنا و ـ الرجلُ: کا پوری زرہ پہننا۔ ذَنَبٌ سَابِغ: لمبی دم سَابِغ الأليتين: بڑے سرین والا۔ درع سَابِغة: جمع سَوَابِغ: پوری زرہ۔ التَّسْبِغ و التَّسْبِغة: جمع تَسَابِغ: زرہ کا وہ حصہ جو خود کو زرہ کی کڑیوں سے ملاتا ہے اور گردن کی حفاظت کرتا ہے۔ التَّسْبِيغ عند اهل العروض: اہل عروض کے ہاں فاعلاتن کے آخر پر ایک ساکن حرف کا اضافہ کرنا جس سے وہ فاعلاتان ہو جاتا ہے۔
٣۔ إسْبَغَلَّ الثوبُ: کپڑے کا پانی سے بھیگ جانا اور اسی طرح بالوں کا تیل سے تر ہونا۔ المُسْبَغِل: وسیع اور وافر۔
○ اسبغ الوضوءَ: صحیح وضو کرنا۔
○ سَابِغ جمع سَوَابِغ: لمبا اور ڈھیلا لباس۔

سبق: سَبَقَ ـِ سَبْقًا الى كذا: سے آگے بڑھنا۔ اس سے ضرب المثل ہے۔ (سبق السيف العذل): یعنی حقیقت ثابتہ کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پہلے ہی دیر ہو چکی ہے انسان اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ـ هُ علی كذا: پر غالب ہونا۔ ـ علی قومه: کرم اور فیاضی میں قوم سے بڑھ جانا۔ اس سے فاعل سابق جمع سابقون و سُبَّاق ہے۔ سَبَّقَ هُ: سے شرط لینا یا اس کو شرط دینا۔ ـ تِ الشَّاةُ: بکری کا قبل از وقت بچہ گرانا ـ الطيرَ: پرندے کے پاؤں میں بندھن ڈالنا ـ البدرة بين الشعراء: شعراء کے درمیان دس ہزار کی تھیلی رکھنا کہ جو اپنے ساتھیوں پر غالب آئے اس کو انعام میں لے لے۔ سَابَقَ سِبَاقًا و مُسَابَقَةً هُ: پر دوڑ میں غالب آنا، سے آگے بڑھ جانا آپ کہتے ہیں۔ سابقتُ بين الخيول: میں نے گھوڑوں پر سوار بٹھا کر دوڑایا تا کہ آپ دیکھیں کہ کون اول آتا ہے۔ اَسْبَقَ القوم الی الأمر: میں جلدی کرنا، سبقت کرنا۔ و تَسَابَقَ القوم: ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ إسْتَبَقَ القوم: ایضاً ـ الرجلان الباب او الى الباب: دونوں نے دروازہ کی طرف جلد بڑھنے کی کوشش کی۔ إسْتَبَقَا الصراط: راستہ سے آگے بڑھ جانا، راستہ چھوڑ دینا اور بھٹک جانا۔ السَّبَقُ: جمع أسْبَاق و السُّبْقَة: شرط جو مقابلہ میں جیت جانے والے کے لئے رکھی جاتی ہے۔ ضرب المثل ہے۔ مَن رُزِق السُّبْقَة اخذ السُّبْقَة: یعنی جو آگے بڑھنے میں جیت جائے گا وہ شرط میں رکھی ہوئی رقم حاصل کر لے گا۔ السِّبْقان: کہتے ہیں۔ هما سِبْقان: وہ دونوں آگے بڑھنے میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ السابق (فا): دوڑ میں جیتنے والا گھوڑا۔ اسکو المُجَلِّي بھی کہا جاتا ہے۔ السابقة: جمع سَوَابِق و سابقات: مونث السابق: اقدمیت برتری سبقت کہتے ہیں۔ له سابقة فی هذا الامر: اسے اس معاملہ میں سبقت، برتری یا پیش روی حاصل ہے۔ السَّوَابِق: گھوڑے۔ السَّبَّاق: بہت آگے بڑھنے والا۔ السِّبَاق: (مص) بندش، قید، سباق الخيل: گھڑ دوڑ۔ السَّبُوق و المُسَبَّق من الخيل: سب سے آگے آنے والا گھوڑا۔
○ سبق له ان فعله: وہ پہلے ہی ایسا کر چکا ہے۔ سبق لنا القول ان: ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ...... سبق الحكمُ عليه ب: قبل ازیں اسے کی سزا سنائی گئی تھی۔ سبق لی: اس سے پہلے یہ میرے ساتھ ہوا۔ لم يسبق لی ان: میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں۔ لم يسبق له مثيل: بے نظیر۔
○ سَبْق: پیش روی برتری، اولیت
○ سبق الاصرار: ضد، خود رائی، سرکشی
○ مِيزة السبق: پہلا قدم، اقدام، پیش قدمی
○ احرز قَصَبَ السَّبْق: جیتنا، کامیاب ہونا، سَبَق: جمع أسباق: شرط کا روپیہ، بدی ہوئی رقم Stake
○ سَبَّاق: فاتح، فتح مند، کامیاب و بامراد مقابلہ میں جیتنے والا۔ ریس کار کا ڈرائیور جمع سَبَّاقون۔ قطار سَبَّاق: ایکسپریس ٹرین۔ اَسْبَقِيَّة: پیش روی، برتری، اولیت، سینیارٹی۔ حِصانُ السباق: ریس کا گھوڑا۔ حَلْبَة (میدان) السِّبَاق: مقابلہ کی راہ (Race Track) سِبَاقُ القوارب: کشتیوں کی دوڑ (boat race) مسابقة: جمع مسابقات: مقابلہ (Race) سابقٌ لأوانه: قبل از وقت Premature فی السابق: ایک دفعہ، پہلے، پہلے زمانہ میں۔ کالسابق: پہلے کی طرح۔ کسابق العادة: حسب معمول۔
○ سابقة: سابق کیس سوابق: سابقہ سزائیں (Previous Convictions) من اصحاب (ذوی) السوابق: پیشتر سزا یافتہ من له سوابق: پیشتر سزا یافتہ۔ غير مَسْبُوق: بے نظیر مُسَبَّقًا: قبل از وقت (Prematuerly) پیشگی Advance In مُسَابِق: مقابلہ میں حصہ لینے والا۔ ریس میں دوڑنے والا۔ مُتَسَابِق: مقابلہ میں حصہ لینے والا مد مقابل۔

سبك: ١۔ سَبَكَ ـُ سَبْكًا الفضَّةَ: چاندی پگھلا کر سانچے میں ڈھالنا ـ الكلامَ: کلام کو عمدہ بنانا۔ ـ تهُ التجاربُ: تجربات کا کسی کو مہذب بنانا۔ سَبَّك الفضةَ: چاندی کو پگھلا کر سانچے میں ڈھالنا ـ الكلامَ: کلام کو عمدہ بنانا۔ إنسَبَكَ الذهبُ ونحوه: سونے وغیرہ کا پگھلا کر سانچے میں ڈھالا جانا۔ السَّبِيك: پگھلا ہوا میل کچیل سے صاف السَّبِيكَة جمع سبائك: چاندی وغیرہ کا ڈلا جو پگھلا کر سانچے میں ڈالا گیا ہو۔ المَسْبَك جمع مَسَابِك: پگھلانے اور ڈھالنے کی جگہ۔ فونڈری (Foundry) مسفار خانہ۔ المِسْبَك (حی): حروف ڈھالنے کی مشین۔
○ صناعة سبك المعادن: دھاتیں صاف کرنے کی صنعت (Metallurgic Industry)
○ سَبَّاك: خام دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنے والا (Smeltor, Founder) سِبَاكة: دھاتوں کو پگھلانے والے کا پیشہ اور کام سَبِيكة جمع سبائك: سونے چاندی وغیرہ کی اینٹ Ingot تسبيك: دم پخت کرنا Stewing, Braising
٢۔ السبكتروسكوب: طیف پیما Spectroscope

سبل: ١۔ سَبَلَ ـُ سَبْلًا هُ: کو گالی دینا۔ اسبل علی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فلان: کسی کے برخلاف بہت کچھ کہنا۔
۲۔ سَبَّلَ السِتر: پردہ چھوڑنا، گرانا۔ سَبَّلَ الشَعَرَ: بال کھلے چھوڑنا (عامی)۔ أَسْبَلَ السِتر: پردہ چھوڑنا و۔ الدمع: آنسو بہانا۔ ـــ الماءَ: پانی گرانا، ڈالنا۔ ـــ تِ السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ ـــ الدمعُ او المطرُ: آنسو یا بارش کا بہت بہنا، برسنا۔ السَبَل: وہ بارش جو بادل سے نکل آئی ہو مگر ابھی زمین پر نہ پڑی ہو۔ آنکھ کی ایک بیماری جس میں پردہ آنکھ پر چھا جاتا ہے۔ بہنے والی بارش یا خون، ناک۔ اسبل الدمع اولمطر کا اسم۔ ثیاب سَبَل: لٹکائے ہوئے کپڑے۔ السَبَلَة: جمع سِبَال: مونچھوں کے بال۔ اوپر کے لب کے درمیان کا دائرہ۔ داڑھی کا اگلا حصہ کہتے ہیں۔ جاءَ وَقد نَشَرَ سَبَلَتَهُ: اس نے اگر دھمکی دی۔ جَرَّ سَبَلَتَهُ: اس نے اپنے کپڑے گھسیٹے۔ بعیر حَسَنُ السَبَلة: باریک کھال والا اونٹ۔ الأَسْبَل من الرجال: لمبی مونچھوں والا آدمی۔ عینٌ سَبْلاءُ: لمبی پلکوں والی آنکھ۔ امرأة سبلاء: مونچھوں والی عورت۔ المُسْبِل والمُسْبَل والمُسَبِّل و المُسَبَّل من الرجال: لمبی مونچھوں والا آدمی۔
۳۔ سَبَّلَ المالَ: مال کو اللہ کے راستہ میں لگانا، خیرات کرنا۔ و۔ الشیءَ: کو مباح کرنا۔ أَسْبَلَتِ الطریقُ: راستہ کا بہت چلا ہوا ہونا۔ السَبِیل: جمع سُبُل و سُبْل و أَسْبُل و أَسْبِلة و سُبُول: راستہ یا کھلی سڑک (مذکر و مونث) اِبْنُ السبیل: مسافر سبیل اللّٰہ: جہاد، طلب علم، حج اور ہر امر خیر جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہتے ہیں۔ لیس لك عليَّ سبیل: تمہارے پاس میرے خلاف کوئی حجت نہیں۔ لیس علی فی کذا سبیل: اس بارے میں مجھ سے کچھ باز پرس نہیں، مجھ پر کچھ حرج نہیں، مولدوں کہتے ہیں۔ ماعلی المُحْسِن سبیل: محسن پر کوئی احتجاجی بحث نہیں۔ سبیلنا ان نفعل کذا: ہمارے لئے ایسا کرنا مناسب ہے۔ السبیلة: راستہ یا کھلا راستہ۔ السَابِلة جمع سوَابِل: بہت چلنے والا راستہ، اسی معنی میں کہتے ہیں۔ سبیل سابلة: نیز سبیل سابلۃ سے راستہ پر چلنے والے بھی مراد لئے جاتے ہیں۔
۴۔ أَسْبَلَ الزرعُ (ز): فصل کا خوشہ نکالنا۔ السَبَل: خوشہ، بالی۔ سَبَلٌ من رماحٍ: نیزوں، برچھیوں یا بلموں کا ایک گٹھا۔ السَبَلة و السُبُولة و السَوُلة: خوشہ کہتے ہیں۔ ملأ الاناءَ الی سَبَلته: اسے برتن کو اوپر تک بھر دیا۔
○ سَبَّلَ الشیءَ: کو خیراتی مقاصد کے لئے وقف کرنا یا مخصوص کرنا۔ اسبل الشیءَ: کو لٹکنے دینا، گرنے دینا، جیسے پردہ وغیرہ۔
○ سَبَل: اناج کی بالیاں واحد سَبْلة۔
○ سَبْلة: کھاد، گوبر سَبَلة جمع سِبَال مونچھیں۔
○ سبیل الی: کا ذریعہ، کے لئے ضروری، کا امکان۔
○ ابن السبیل: آوارہ گرد، بے خانماں، مارا مارا پھرنے والا مسافر۔
○ فی سبیلِ: کی خاطر، کے لئے، کے واسطے، کی مصلحت میں۔ بسبیلِ یا عن سبیلِ: بذریعہ، کے ذریعے، کے باعث، کے نتیجہ میں۔ علی سبیل التجربة: تجربہ کے طور پر آزمائشی طور پر۔ علی سبیل المثال: مثال کے طور پر، خلّی سبیله: کو جانے دینا، رہا کرنا۔ اَخْلَی سبیلهُ: کو جانے دینا، رہا کرنا ضاقت به السبل: اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، وہ بدحواس ہو گیا۔ لیس عليّ فی ذلك سبیل: مجھے ایسا کرنے سے روکنے کا کوئی جواز نہیں، میں ایسا کرنے میں آزاد ہوں، اگر میں ایسا کروں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
○ طریق سَابِلة: پبلک روڈ، شارع عام، وہ سڑک جس پر بکثرت آمد و رفت جاری رہے۔
○ السابلة: پاس سے گزرنے والے
○ مسبول: گرایا ہوا (پردہ)
○ الاسبان: اسپینی لوگ، اسپین والے اسبانی: سپین کا (رہنے والا)
○ سِبنسة: جمع سبنْسات: مال گاڑی

سبن: ۱۔ أَسْبَنَتِ المرأةُ: عورت کا ہمیشہ سیاہ تہمد باندھنا۔ السَبَنِیَّة: عورتوں کا سیاہ تہمد۔
۲۔ السَبَنْت والسَبَنْتَه: عرصہ کہتے ہیں۔ اقمت عنده سبنتا: میں اس کے پاس ایک عرصہ ٹھہرا رہا۔ السَبَنْتَی جمع سَبَاتِت و سَبَاتٍ: دلیر آگے بڑھنے والا۔ (ح) چیتا۔

سبه: ۱۔ سَبُهَ سَبْهًا و سَبَّهَ تَسْبِیهًا: بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا جانا۔ مَسْبُوه و مُسَبَّهٌ: بڑھانے کی وجہ سے سٹھیایا ہوا۔ السَبَهُ: بوڑھاپے کی وجہ سے عقل جاتی رہنا۔ رجلٌ سَبِهٌ و سَبَاهٌ: متکبر مرد السُباه: سکتہ۔ بڑھاپے کی وجہ سے عقل کا جاتا رہنا، بے عقلی، سٹھیاپن۔ رجل سَبَاهِیّ: بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیایا ہوا۔ المُسَبَّه فصیح اللسان۔
۲۔ سَبَهْلَل: کہتے ہیں۔ جاء الرجلُ سَبَهْلَلاً: آدمی بغیر ہتھیار و ڈنڈے کے آیا، بے پرواہ ہو کر آیا یا بغیر کسی کام کے آیا۔ هو یمشی سَبَهْلَلاً: وہ بیکار آتا جاتا ہے
○ سَبَهْلَلاً: بے پروائی سے، بے مقصد، یونہی، اتفاق سے، بے سوچے سمجھے۔
○ سَبَاهِلَة: بے روزگار لوگ سست، کاہل، آرام طلب لوگ، آوارہ گرد، خدائی خوار، کوچہ گرد، ہرزہ گرد۔

سبی: ۱۔ سَبَی ـِ سَبْیًا و سِبَاءً العدوَّ: دشمن کو قید کرنا، قیدی بنانا، گرفتار کرنا۔ ـــ الرجُلَ: کو نکال دینا، جلا وطن کرنا۔ ـــ الخمرَ: شراب کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانا ـــ فُلانًا: کسی کو دام محبت میں گرفتار کرنا۔ تَسَبَّی فلانٌ لفلانٍ: کسی کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے اظہار محبت کر کے۔ تَسَابَی القوم: ایک دوسرے کو قیدی بنانا۔ اِسْتَبَی اِسْتِبَاءً العدوّ: دشمن کو قید کرنا۔ ـــ قلبَ فلانٍ: کو اپنی محبت کا اسیر بنانا ـــ الخمرَ: شراب کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا۔ السَبْیُ جمع سُبِیّ: قیدی کہتے ہیں۔ جاؤوا بِسَبْیٍ کثیر: وہ بہت سے قیدی لیکر آئے۔ زیادہ تر اَسْرٌ کا لفظ مردوں کے لئے اور سَبْیٌ کا لفظ عورتوں کے لئے مخصوص ہے۔ سَبْیُ الحیّةِ: سانپ کی کینچلی۔ السَبِیّ: جمع سَبَایا: غلام، جنگی قیدی، لونڈی کہتے ہیں۔ غلام سَبِیٌّ و جاریة سَبِیّ: غلام (لڑکا) اور لونڈی (لڑکی) ـــ و السَبَاء: وہ لکڑی جس کو سیلاب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا ہو۔ سَبِیُّ الحیّة: سانپ کی کینچلی۔ السَبِیَّة: قیدی عورت ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی گئی شراب۔ موتی۔
۲۔ سَبَی ـِ سَبْیًا و سِبَاءً الحافرُ الماءَ: کھودنے والے کا پانی تک پہنچنا۔

سبا: سَبَا (سَبا کی ایک بولی) اس سے ضرب المثل ہے۔ ذهبوا او تفرقوا ایدی سبا و ایادی سبا: یعنی وہ ایسے متفرق ہوئے کہ پھر کبھی اکٹھے نہ ہو سکے۔
○ سَبَی ـِ سَبْیًا و سِبَاءً: قیدی بنانا قید کرنا، گرفتار کرنا، جنگ میں قید پر مجبور کرنا۔ ـ هُ و شیئًا: کو لبھانا، موہ لینا، فریفتہ کرنا، گرویدہ کرنا، پر جادو کر دینا، کو خوش کرنا، شیفتہ کرنا، کو دھوکا دینا، دھوکے سے کام لینا، کے دل میں شوق پیدا کرنا، شوق آفرین ہونا۔
○ سِبِیدَاج، سِبِیدَاج: سیندور (White lead)
سِبِیدَاج: سیندور۔
○ س ت: سِجِلّ تِجاری کا مخفف تجارتی رجسٹر کاروباری کھاتہ۔
○ است: سرین، پٹھا، چوتڑ، پچھلی طرف ست۔
السَتّ: عیب، بری گفتگو۔ السِتة: (ج) چھ (مذکر کے لئے) سِت: (چھ مونث کے لئے) السات: چھٹا۔
السِتون: ساٹھ (مذکر و مونث دونوں کے لئے)

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ سِتَّةَ عَشَرَ: سولہ مذکر کے لئے
○ سِتَّ عَشْرَةَ: سولہ مونث کے لئے
○ سِت: جمع سِتّات لیڈی، بیگم، خاتون
○ سِت الحسُن: بلاڈر، بھلانواں (دواء)
(Belladonna)

ستر: ا۔ سَتَرَ ـَ سَتْراً و سَتَراً و سَتَّرَ الشيءَ: کو چھپانا، ڈھانکنا۔ سَاتَرَ مُسَاتَرَةً ہ العداوۃ: سے چھپی دشمنی رکھنا۔ تَسَتَّر و اِسْتَتَرو اِنْسَتَرَ: ڈھکا رہنا، چھپنا، پوشیدہ ہونا کہتے ہیں (ھو لا یستتر من اللّٰہِ بِستر) وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ السِّتْر جمع سُتُور و أسْتَار: پردہ، خوف، حیاء کہتے ہیں۔ مالَہُ سِتْرٌ ولاحِجْرٌ: اسے نہ حیاوشرم ہے نہ عقل۔ هتك اللّٰه سِترَہُ: اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب اور برائیوں کو بے نقاب کردیا۔ السَّتَر (مص): ڈھال الِستار جمع سُتُر: پردہ مدَّ اللیلُ سِتارَہُ: رات نے تاریکی کا پردہ پھیلا دیا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ السِتارَۃ جمع سَتَائِر: پردہ السُتْرۃ جمع سُتَر: پردہ، (عام زبان میں) ایک قسم کا لباس، ادباء اسے معطف کہتے ہیں۔ سُتْرۃ السطح: چھت پر پردہ کی دیوار۔ السُتْرَۃ جمع سِتَر و سِترات: جیکٹ، بُٹی دارکوٹ، روئی چغہ۔ بالطو جمع بالطوات: (اوورکوٹ) کو بھی کہا جاتا ہے۔ السَّتّار: ساتر سے اسم مبالغہ (بہت چھپانے والا) صفات خداوندی سے ہے۔ السَّتِیر: چھپاہوا، پاکدامن، کہتے ہیں۔ رجلٌ ستیر و امرأۃ ستیرہ جمع سُتَراء: جیسے قتلاء و شہداء۔ شجرٌ ستیر: بہت شاخوں والا درخت۔ المَسْتُور (مفع) جمع مستورون و مَسَاتِیر: پاکدامن، مستورات۔ الزھر (ن): نباتاتی شاخ جس میں اعضاء تناسل پوشیدہ ہوتے ہیں۔ المِسْتَر و الاستارۃ: پردہ جاریۃ مُسَتَّرۃ: پردہ نشین عورت۔
۲۔ الاستار جمع اَسَاتِر و اَسَاتِیر فی العدد چار فی الوزن: چار مثقال
○ سَتَرَہ / ہ عن: کو سے چھپانا۔ سَتَرَہُ/ ہ عن: کو بچانا، کی حفاظت کرنا، پناہ دینا (سے یا کے خلاف) سَتَرَ علی ہ: کو کچھ معاف کردینا۔
○ سِتر جمع سُتُور و اَسْتَار: نقاب، برقع، پردہ، سکرین، کھڑکی کا پردہ، ڈھکنا۔ کور، (فوجی) حفاظت، پناہ، ڈھال، بہانہ، عذر، معذرت، اعتذار۔
○ سُتَرِی: مسخرہ، بھانڈ، نقال۔
○ سِتار جمع سُتُر: نقاب، برقع، پردہ، سکرین، ڈھکنا پوشش، پوش، بہانہ، عذر، معذرت، اعتذار۔ الستار الحدیدی: آہنی پردہ۔ الستار الفضّی: سینما سکرین۔ ستار من النار (النیران): (توپوں کی) باڑھ (فوج)۔ رفع الستار عن الشیء: کسی چیز کو ظاہر کرنا، افشا کرنا، منظر عام پر لانا، بے نقاب کرنا۔ (کسی یادگار کی) نقاب کشائی کرنا۔ مِن وراء الستار: پردے کے پیچھے (behind the scenes) (مجازاً) بیک سٹیج۔
○ سِتارۃ جمع ستائر: وہی معنے جو اوپر ستر اور ستار کے تحت درج کئے گئے ہیں۔
○ تَسَتَّر: کَوَر (عسکری)
○ ساتِر: سکرین، فولڈنگ سکرین۔
○ مَسْتُور: چھپاہوا، غیرمرئی، نقاب پہنے ہوئے، پاکدامن، پارسا، نیک، عفیف۔
○ مَسَاتِیر: پوشیدہ اور خفیہ باتیں۔
○ مُتَسَتِّر: گمنام، غیرمعروف۔ مُسْتَتِر: پوشیدہ، چھپاہوا، پنہاں دیاہوا، خوابیدہ (Letent) محذوف، مقدر (Unders tood) کے مفہوم میں۔
○ سَتَّفَ ہ: (اشیاء کا) ڈھیر لگانا، انبار لگانا، کو حفاظت کے لئے ایک جگہ رکھنا، قرینے سے رکھنا۔
○ تستیف: انبار لگانا، قرینے سے رکھنا، گودام۔
○ سَتَہ و سِتَہ و سَتَہ جمع اِستار: مقعد، چوتڑ، پشت۔

ستق: السُّتُّوق و السَّتُّوق: کھوٹا جعلی درہم۔ المُسْتُقۃ و المُسْتَقَۃ: درازآستین کی پوستین، چنگ وغیرہ بجانے کا آلہ (فارسی لفظ)۔

ستل: ا۔ سَتَلَ ـُ سَتْلاً و تَسَاتَل و اِنستل و اِسْتَتَل القومُ: ایک دوسرے کے پیچھے سلسلہ وار نکلنا ــــ اللؤلؤ: موتیوں کا لگاتار بکھرنا ـ الدمعُ: آنسو کا قطرے قطرے ٹپکنا۔ ساتِل: قطرے قطرے ٹپکنے والا (آنسو) سَتِلَ ـَ سَتَلاً ہُ: کی پیروی کرنا۔ سَاتَلَہُ: کی پیروی کرنا۔ المُستَل جمع مَسَاتِل: تنگ راستہ۔
۲۔ السُّتَل جمع سُتُلان و سِتلان (ح): عقاب یا اس کے یا گدھ کے مشابہ پرندہ۔ السُّتَالۃ: ردی چیز۔

ستن: اُسْتَنَ الرجلُ فی السنۃ: کا قحط سالی میں پڑنا۔ الأُستن و الأستان: بوسیدہ درخت کی جڑیں۔ الاسْتُون (اُع): پستول وغیرہ کی نالی۔

ستہ: سَتَہَ ـَ سَتَہاً الرجلَ: کے پیچھے لگ کے سرین پر مارنا۔ السَّتَہُ و السِتَۃ و السَّتَۃ جمع أَسْتاہ (ع ا): سرین۔ الأَسْتَہ و السُتاھی جمع سُتْہ و سُتْہان و سَتَاھِی م سَتْھاء: موٹے سرین والا۔

ستا: ا۔ سَتَا ـُ سَتْواً: جلدی کرنا۔
۲۔ سَتّی و أَسْتَی الثوبَ: کپڑا بننے کے لئے تانے کو پھیلانا۔ السَتا: کپڑے کا تانا۔ سَتَاۃُ الثوب: کپڑے کا تانا کہتے ہیں۔ مالنت لحمۃٌ ولا سَتَاۃٌ: تو نہ نفع کا ہے نہ نقصان کا۔ تو بے ضرر ہے۔ الأُسْتِیُّ: کپڑے کا تانا، تانا تناہوا کپڑا۔
۳۔ السَتا: بھلائی کہتے ہیں۔ نال منہ سَتًا: اس نے اس سے بھلائی پائی۔

سج: ا۔ سَجَّ ـُ سَجّاً: کو پتلا پاخانہ آنا ـــ الحائطَ: دیوار لیپنا۔ السَجَّۃ و السَجاج: بہت پانی والا دودھ۔ السُّجُج: لیپی ہوئی چھتیں، نیک نفوس۔ المِسَجَّۃ (ب): لپائی کے کام میں آنے والا لکڑی کا ایک اوزار۔
۲۔ السَّجْسَج جمع سَجَاسِج و سَجَاسِیج: زمین جو نہ سخت ہو نہ نرم، فجر اور سورج نکلنے کا درمیانی عرصہ کہتے ہیں۔ یومٌ سَجْسَجٌ: وہ دن جس میں نہ تو تکلیف دینے والی گرمی ہو اور نہ ہی سخت سردی۔ ھواءٌ سَجْسَجٌ: معتدل ہوا۔ رِیحٌ سَجْسَجٌ: معتدل اور نرم ہوا۔

سجح: ا۔ سَجَحَ ـُ سَجُحاتِ الحمامۃُ: کبوتری کا گوگو کرنا۔
۲۔ سَجَحَ ـُ سَجْحًا و سَجَّحَ لہ بکلام: کے ساتھ اشارہ اور کنایہ سے بات کرنا۔
۳۔ سَجِحَ ـَ سَجَحًا و سَجَاحَۃً: معتدل لمبائی والا ہونا، کم گوشت والا ہونا ــ الخدُّ: رخسار کا نرم وملائم ہونا ــــ خُلُقُہُ: نرم اخلاق ہونا۔ کہتے ہیں۔ فی عقلہ رجاحۃٌ و فی خُلُقہ سجاحۃ: اس کی عقل میں پختگی اور اخلاق میں نرمی ہے۔ اَسْجَحَ الوالی: اچھی طرح معاف کرنا۔ ــ الرجلُ: نرم ولطیف کلام والا ہونا کہتے ہیں۔ اذا سالتَ فاسْجِحْ: یعنی سوال کروتو نرم اور دلپسند الفاظ بولو۔ اِنسَجَحَ لہ بکذا: اسے وہ چیز دیدی گئی۔ السُّجُح: نرم وآسان کہتے ہیں۔ رجلٌ سُجُحٌ: خوش خلق آدمی ــ السَّجُحُ: راستہ اور اس کا وسطی حصہ۔ السَّجِیح: نرم وآسان۔ السَّجْحَۃ و السَّجِیحۃ: خُلق، خصلت فطرت، طبیعت، رکب سَجِیحۃَ رأسِہ: وہ اپنے لئے ایک رائے پسند کر کے اس پر کاربند ہوگیا۔ السُّجاح: ہوا۔ الأَسْجَح م سَجْحَاء: جمع سُجْح: خوبصورت مناسب اعضاء والا۔
۴۔ السِّجاح: سامنے کہتے ہیں۔ جلستُ سِجاحَ وجہہ: میں اس کے (منہ کے) سامنے بیٹھا۔ السُّجْح: اندازہ کہتے ہیں۔ بیوتہم علی سُجْحٍ واحد: ان کے گھر ایک ہی اندازہ کے ہیں۔ السَّجِیحَۃ: اندازہ

سجد: ا۔ سَجَدَ ـُ سُجُوداً: عاجزی وخاکساری سے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جھکنا، عبادت میں پیشانی و ناک زمین پر رکھنا۔
ساجد: عاجزی اور خاکساری سے جھکنے والا، عبادت میں پیشانی و ناک زمین پر رکھنے والا، ساجد جمع سُجَّد و سُجُود: مؤنث ساجدہ جمع ساجدات و سَوَاجد۔ ساجِدُ المَنْخَرُ: خاکساری کرنے والا۔ ذلیل و پست۔ عینٌ ساجدةٌ: جھکی ہوئی آنکھ۔ نَخْلَةٌ ساجدةٌ: جھکا ہوا کھجور کا درخت۔ أَسْجَدَ: سر جھکانا، ــــ عَيْنَهُ: نگاہ نیچی رکھنا۔ السِجْدة: سَجَدَ کا اسم السَجَّاد: بہت سجدے کرنے والا۔ السَجَّادة و المِسْجَدة: جائے نماز، مصلی المَسْجَد جمع مَسَاجد: آدمی کی پیشانی۔۔ و المسجِد جمع مَسَاجد: سجدہ گاہ، عبادت گاہ، مسجد۔ المسجِدان: مکہ کی مسجد اور مدینہ کی مسجد۔
۲۔ سَجِدَ۔ سَجَداً تِ رِجْلُهُ: پاؤں کا سوجنا۔ أَسْجَد: جس کا پاؤں سوجا ہوا ہو۔
○ سَجَدَ لِ: کے سامنے جھکنا و ــ لله: اللہ کی عبادت کرنا۔ سَجَّاد: جمع سجادون: عابد سَجْدَة جمع سَجَدات: عبادت میں ماتھا زمین پر ٹیکنا۔ احد السَجْدَةَ: ایسٹر کے بعد کا ساتواں اتوار، سفید اتوار (مسیحی اصطلاح) سُجُود: زمین پر ماتھا ٹیکنا، سجدہ، عبادت، نیز ساجد کی جمع۔ سَجَّادَه (اسم جمع) سَجَّاد جمع سجاجید: نماز پڑھنے کا نمدہ، قالین صاحب السجّاده و شیخ السجاده: سجادہ نشین (درویشی سلسلہ کے سربراہ کا لقب)۔ مَسْجِدٌ جامعٌ: جامع مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ المسجد الحرام: مکہ معظمہ کی مسجد۔ المسجد الأقصی: قدس شریف کی مسجد۔

سجر: سَجَرَ ـُ سَجْرًا التنّورَ: تنور کو ایندھن سے گرم کرنا ــ الماءُ النهرَ: پانی کا نہر کو بھرنا ــ البَحرُ: سمندر کا جوش مارنا ــ الماءَ فی حلقه: پانی حلق میں ڈالنا، سَجَّرَ الماءَ: پانی جاری کرنا ــ التنورَ: تندور میں لکڑیاں ڈال کر گرم کرنا۔ سُجِّرِ البحرُ: سمندر کا جوش مارنا چڑھنا اور اس میں لہریں اٹھنا۔ اِنْسَجَرَ الاناءُ: برتن کا بھرنا۔ بئرٌ سَجْر: بھرا ہوا کنواں۔ السُجْرَة جمع سُجَر: نہر کو بھر دینے والا پانی۔ السَاجر (فا): ہر جگہ کو بھر دینے والا سیلاب۔ وہ علاقہ جہاں سیلاب آ کر پھیل جائے۔ السَجُور و المِسْجَر: تنور کو گرم کرنے کا ایندھن (لکڑیاں وغیرہ) المُسَجَّر: دریا وغیرہ کا پانی جو تہ نشین ہو گیا ہو۔ المَسْجُور (مفع): ساکن اور بھرا ہوا، خالی (ضد)، وہ دودھ جس میں پانی کا حصہ اس سے زیادہ ہو۔ لُؤلُؤةٌ مَسْجُورَة: بہت آبدار موتی۔
۲۔ سَجَرَ۔ سَجْراً الکلبَ: کتے کے گلے میں لکڑی باندھنا۔ السَاجُور جمع سَوَاجِير: لکڑی جو کتے کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے۔ اسی سے ہے۔ سَوْجَرَ الکلبَ: یعنی اس نے کتے کے گلے میں لکڑی لٹکائی۔ کہتے ہیں۔ فی اعنافهم سواجير: ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔
۳۔ سَجَرَ۔ سَجْرًا و سُجُورًا تِ الناقةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکلنا۔ سَجَّرتِ الناقةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا۔ السَجْر (مص): رعد کی آواز۔
۴۔ سَجَرَ۔ سَجْرًا الشیءَ: چیز کو بھیجنا۔ اِنْسَجَرت الإبلُ فی سیرها: اونٹوں کا آگے پیچھے ایک قطار میں چلنا۔ شعرٌ مُسَجَّر و مُنْسَجِر: لٹکے ہوئے بال۔ اللُّؤلُؤُ المسجُور: پروئے ہوئے موتی۔ لڑی سے بکھرے ہوئے موتی۔
۵۔ سَاجَرَهُ: کا مخلص دوست بننا۔ السَجِير جمع سُجَراء: مخلص دوست۔
۶۔ السَجَرو السُجْرة فی العین: آنکھ کی سرخی۔ الأَسْجَر م سَجْرَاء: جس کی آنکھ میں سرخی ہو۔ خالص کیچڑ والا تالاب۔
○ سَجَرَ ـُ ہ: سٹو یا تنور وغیرہ گرم کرنا۔ سَجَّر ہ: پانی کو کناروں سے بہانا۔ مُسَجَّر: لمبے لٹکتے (بال)
○ سِجارة جمع سجارات سَجَايُرو سَجَايِر: سگرٹ۔

سجس: سَجِسَ ـَ سَجَسًا الماءُ: پانی کا گدلا اور متغیر ہونا۔ سَجْسٌ و سَجِسٌ و سَجِيس: گدلا اور متغیر (پانی) سَجَّس المنهلُ: چشمہ کے پانی کا بدبودار اور خراب ہونا۔ السَجَس (مص): فساد، خرابی، گدلا پن۔ السَجِيس: گدلا کہتے ہیں۔ لا آتيكَ سَجِيسَ الليالی: میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤنگا۔

سَجَع ـَ سَجْعًا الخطيبُ: مقرر کا مقفی تقریر کرنا۔ سَاجِع ز سَجَّاع و سجّاعة: مُقفیٰ تقریر کرنے والا (خطیب) ــ تِ الحمامةُ: فاختہ یا کبوتر کا کو کو کرنا۔ سَاجِعَةٌ و سَجُوع جمع سُجَّع و سَوَاجِع: کوکو کرنے والی (فاختہ یا کبوتر) ــ تِ الناقةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکلنا۔ اسی طرح کمان کا لمبی آواز نکالنا۔ سَجَّعَ الخطيبُ و الحمامةُ: مقرر کا مقفی تقریر کرنا، مقرر کا مقفی تقریر کرنا اور فاختہ یا کبوتر کا کوکو کرنا۔ (تشدید مبالغہ کے لئے ہے) وجهٌ سَاجِعٌ: اچھی ساخت کا معتدل چہرہ۔ ناقةٌ [illegible] آواز [illegible]
السَجْع جمع اَسْجَاع: مقفی کلام۔ السَجْعَة الأُسْجُوعَة ج أَساجيع: قافیہ دار کلام کا ایک ٹکڑا۔
۲۔ سَجَع ـَ سَجْعًا فلانٌ ذلك المسجَعَ: کا ارادہ ہونا، کی نیت ہونا، چاہنا۔ السَاجع (فا): کلام یا رفتار میں درمیانی چال چلنے والا (اسکی ضد جائر ہے) المسجَع: مقصد
○ سَجَعَ: فاختہ یا کبوتر کا کوکو کرنا۔ مقفی: نثر میں بات کرنا۔ سَجَّع: مقفی، نثر میں بات کرنا۔ سَجْع: مقفی نثر۔ سَجْعَة: مقفی نثر کا ایک ٹکڑا۔ سَاجِعٌ: مقفی نثر میں بات کرنے والا۔

سجف ا۔ سَجَفَ ـُ سَجْفًا و سَجَّفَ البيتَ: مکان پر پردہ لٹکانا۔ اَسْجَفَ السِترَ: پردہ چھوڑنا ــ البیتَ: مکان پر پردہ لٹکانا ــ اللیلُ: رات کی تاریکی کا پھیل جانا۔ السَجْف و السِجْف جمع سُجُوف وَ أَسْجَاف و السِجَاف و السَجِيف: بیچ سے چرا ہوا پردہ۔ دو پردے بیچ سے کھلے ہوئے عام طور پر پردہ کہتے ہیں۔ أرخی اللیلُ سُجُوفَهُ: رات نے اپنی تاریکی پھیلا دی۔ السِجاف: گوٹ۔ السِجَافَة: پردہ۔ حجاب السُجْفةَ: رات کی ایک گھڑی کہتے ہیں۔ مَضَتْ سُجْفةٌ من اللیل: رات کی ایک گھڑی گزر گئی۔
۲۔ سَجَفَ ـَ سَجَفًا: پتلی کمر والا اور نحیف پیٹ والا ہونا۔
○ سَجْفٌ و سِجْفٌ جمع أَسْجَاف و سُجُوف: پردہ، برقع۔ سِجَاف: جمع سُجُف: پردہ، برقع، نقاب۔

سجل: ا۔ سَجَلَ ـُ سَجْلاً الماءَ: پانی گرانا، ڈالنا ــ به: کو اوپر سے پھینکنا۔ سَجَّلَ ہ بالشیءِ: کو اوپر سے پھینکنا۔ سَاجَلَ مُسَاجَلَةً و سِجَالاً ہُ: رفتار یا شعر گوئی میں کسی سے مقابلہ کرنا۔ اَسْجَلَ: بڑا صاحب خیر ہونا ــ ہُ: کو بہت بخشش دینا ــ الحوضَ: حوض کو بھرنا، لبریز کرنا ــ الکلامَ: آزادانہ بولنا ــ الناسَ: کو چھوڑ دینا ــ لهم الامرَ: لوگوں کو کوئی معاملہ سپرد کر دینا۔ ان کے لئے مباح کر دینا اسی سے ہے۔ وهذا مُسْجَلٌ له ان شاءَ اخذه وان شاءَ ترکهٗ: اسے اس امر میں کھلی چھٹی ہے ــ الانعام فی الزرع: چاپایوں کو کھیتی میں چھوڑ دینا۔ تَسَاجَلا: ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ آپس میں مقابلہ کرنا۔ اِنْسَجَلَ: اوپر سے گرنا۔ کہتے ہیں۔ سَجَلَ الماءَ فانسجل: اس نے پانی گرایا اور وہ گرا۔ السَجل: (مص) جمع سِجَال و سُجُول: بڑا ڈول جس میں

maarfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تھوڑا بہت پانی ہو۔ ڈول بھر بخشش، فیاض آدمی۔ بڑا تھن۔حصہ۔کہا جاتا ہے: اعطاه سَجْلَهٗ من كذا: اس نے اس کو فلاں چیز سے اس کا حصہ دیا۔ کہتے ہیں۔ الحرب بينهم سِجَالٌ: یعنی لڑائی کا پانسہ پلٹتا رہتا ہے۔ آج ایک کو غلبہ ہے تو کل دوسرے کو۔ عینٌ سَجُولٌ آنکھ جو بہت آنسو بہائے۔ السَّجيل: نصیب حصہ کہتے ہیں۔ اعطاه سَجِيْلَهٗ من كذا: اس نے اسے کا حصہ دیا۔ ضرعٌ سَجِيل لٹکا ہوا بڑا تھن۔ دلوٌ سَجيل و سَجِيْلَةٌ بڑا ڈول نَاقَةٌ سَجْلَاءُ بڑے تھنوں والی اونٹنی۔ المُسْجَل ہر ایک کے لئے مباح کہتے ہیں۔ فعلناه و الدهرُ مُسْجَلٌ: ہم نے اس کام کو اس وقت کیا جب کوئی کسی سے نہ ڈرتا تھا۔

۲۔ سَجَّلَ الكتابَ: کتاب لگاتار پڑھنا۔ ـــ الرجلُ: عہد نامہ لکھنا۔ الاوراقَ محکموں وغیرہ میں اوراق ضبط تحریر میں لانا۔ ـــ القاضی علیه: قاضی کا اس کے خلاف فیصلہ دینا۔ و۔ ـــ علیه بكذا: کو بدنام کرنا (کی وجہ سے)۔ ـــ له بماله: (کو) کیلئے ثابت کرنا۔ السِجِلّ جمع سِجِلَّات: معاہدات کا رجسٹر، احکام و دعوں کے ضبط کرنے کا رجسٹر۔ جوڈیشنل ریکارڈ۔

۳۔ شیءٌ سَجِيلٌ بہت سخت چیز۔ السِّجِيل: کنکر۔ سنگ گل۔ السَّوْجَل و السَّوْجَلَة اور السَّاجُول جمع سَوَاجِيل: شیشی کا ڈھکن۔کور۔

○ سَجَّلَ ہ کا اندراج کرنا، کو درج کرنا، کو لکھنا، ضبط تحریر میں لانا، ریکارڈ کرنا، نوٹ کرنا، ریکارڈ میں رکھنا، سرکاری ریکارڈ کے لئے بیان تیار کرنا، کی دستاویز بنانا، کی گواہی دینا۔ سَجَّلَ اِصابةً ضرب کا نمبر لینا، سکور کرنا، ریکارڈ کرنا۔ سَجَّلَ ہ فی الشرائطِ المُسَجَّلَة: ٹیپ پر ریکارڈ کرنا، کو ٹیپ ریکارڈ کرنا۔ "(کھلاڑی کا) ریکارڈ قائم کرنا، (ایجاد وغیرہ) پیٹنٹ کروانا۔ سَجَّلَ علی نفسه أن: کچھ کرنے یا ہونے کی وجہ سے ریکارڈ پر ہونا۔ سَاجَلَه: کا حریف یا رقیب ہونا، سے ہمسری یا برابری کا دعویٰ کرنا، سے مقابلہ کرنا، سے مباحثہ کرنا، بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ سَاجَلَه الحديثَ کو گفتگو پر آمادہ کرنا، سے مذاکرات کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔

○ سِجِلّ جمع سِجِلَّات: لپٹا ہوا کاغذ، طومار، رجسٹر، فہرست، اشاریہ۔ سجلات: تاریخی دستاویزات۔ السِجِلّ التجاری: تجارتی رجسٹر۔ السجل الذهبی: سنہری کتاب۔ سجل الزيارات: وزیٹروں کی کتاب۔ مہمانوں کی کتاب۔ سجل التشریفات: ملاقاتیوں کی فہرست (ڈپلومیٹک اصطلاح) سجل (یا سجلات) الأطیان، السجل العقاری: زمینوں کا رجسٹر۔ اراضی کا رجسٹر۔

○ تسجیل جمع تسجیلات: اندراج کرنا، اندراج، رجسٹریشن، ڈوکومنٹیشن، تصدیق، بکنگ، ریکارڈنگ، ٹیپ ریکارڈنگ، رجسٹری (ڈاک کی) تسجیل عقاری: زمینوں کے رجسٹر میں اندراج۔ آلة تسجيل الصوت: ٹیپ ریکارڈنگ۔ مساجلة: مقابلہ مسابقہ، مقابلہ میں حصہ لینا، بات چیت، گفتگو، بحث مباحثہ۔ مُسَجِّل جمع مسجلون: رجسٹرار، وثیقہ نویس، ناظر رجسٹری۔ Notary public۔ مُسَجِّل: جمع مُسَجِّلات: ٹیپ ریکارڈر شریط مُسَجِّل جمع شرائط مُسَجِّلَة: میگنیٹک ٹیپ۔ مُسَجِّل الكُلِّيَّة: کالج کے شعبہ کا سیکرٹری۔ مُسَجَّل: رجسٹرڈ، درج شدہ، ریکارڈ شدہ منضبط، ضبط تحریر میں لایا ہوا۔ رسالة مُسَجَّلَة رجسٹرڈ لیٹر (خط) مراسلات مُسَجَّلَة: رجسٹرڈ (ڈاک) اطنان مُسَجَّلة رجسٹرڈ ٹن۔ حَفْلَةٌ مُسَجَّلَةٌ: ریکارڈ شدہ موسیقی کی سنگت۔ concert of recorded music۔

سجم: سَجَمَ ـُ سُجُومًا و سِجَامًا الدمعَ: آنسو بہنا۔ ساجم: بہنے والا آنسو۔ و۔ سَجْمًا و سُجُومًا و سَجَمَانًا تِ العينُ او السحابةُ الماءَ: آنکھ کا آنسو یا بادل کا پانی بہانا۔ سَجَّمَ تَسْجَامًا و تَسْجِيمًا الماءَ: پانی گرانا۔ اَسْجَمَ الماء: پانی گرانا، ڈالنا۔ ـــ ت السحابةُ: بادل کا دیر تک برسنا۔ اِنْسَجَمَ الماءُ: پانی کا گرنا، بہنا۔ ـــ الكلامُ: کلام کا مرتب ہونا۔ تَسَاجَمَتِ الدموعُ: آنسو کا گرنا، بہنا۔ السَّجْم: پانی، آنسو۔ عینٌ سَجُومٌ جمع سُجُوم: آنسو بہانے والی آنکھ نَاقَةٌ سَجُومٌ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی نَاقَةٌ مِسْجَامٌ جمع مَسَاجِيم: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ مكانٌ مَسْجُومٌ: وہ جگہ جہاں بارش برسی ہو۔ الإنسِجام: مصدر اِنْسَجَمَ و ـ عند البديعيين: کلام کا پیچیدگی سے خالی ہونا، آسان ترکیب والا ہونا، شیریں کلمات پر مشتمل ہونا، تکلف سے دور ہونا، دلوں پر اثر انداز ہونے والا ہونا اور پرتاثیر ہونا۔

۲۔ سَجَمَ ـُ سَجْمًا و سُجُومًا عن الامر: بات میں دیر کرنا، ٹالنا، سے کترانا۔

○ انسَجَمَ: کلام کا رواں ہونا، شستہ ہونا، شیریں ہونا، ہم آہنگ ہونا۔ انسجم مَعَ: سے ہم آہنگ ہونا، کے مطابق یا موافق ہونا۔ اِنْسِجَام: روانی، ہم آہنگی، دلکش شیریں، یا سریلا نغمہ، ترتیب، مُنْسَجِمٌ: ہم آہنگ، شیریں، مطابق موافق۔

سجن: سَجَنَ ـُ سَجْنًا: کو قید کرنا، جیل میں محبوس کرنا۔ ـــ الهمَّ: غم کو چھپانا۔ السِّجْن جمع سُجُون: جیل، قید خانہ۔ السَّجَّان: داروغہ جیل، جیلر۔ السَّجِين جمع سُجَنَاء و سَجْنَى م سَجِين و سَجِينَة جمع سَجْنَى و سَجَائِن: قیدی۔ ضربٌ سَجِينٌ ایسی مار جو پٹنے والے کو زمین سے ہلنے نہ دے۔ السَّاجِنَة جمع سَوَاجِن: ساجن کا مونث۔

۲۔ سَجَّنَ الشيءَ: کسی چیز کو پھاڑنا۔

۳۔ السَّاجِنه جمع سَوَاجِن: پہاڑ میں پانی بہنے کی جگہ۔ السِّجِّين: دائم سخت۔ کہتے ہیں۔ جاء سِجِّينًا وہ علانیہ آیا۔

۴۔ السَّجَنْجَل جمع سَنَاجِل: آئینہ چاندی کا ٹکڑا اینٹیں۔

○ سَجْن نظر بندی، قید، حراست۔ سَجِين جمع سُجَنَاء و سَجْنَى: جیل کا ساتھی، سزا یافتہ، سزایاب۔ مَسْجُون جمع مَسَاجِين: قیدی، ساتھی قیدی، سزا یافتہ، سزایاب۔

سجا: ا۔ سَجَا ـُ سَجْوًا و سُجُوًّا الليلُ: رات کا خاموش ہونا، سنسان ہونا، ہمیشہ رہنا۔ ـــ تِ الناقةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا۔ سَجَّى تَسْجِيَةً الميتَ: مردہ پر چادر ڈالنا۔ اسی سے ہے۔ سَجِّ معايبَ اخيك: اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو، چھپاؤ۔ اَسْجَى الرَّجُلُ: آدمی کا کوئی چیز ڈھانپنا، چھپانا۔ ـــ البحرُ: سمندر کی موجوں کا ساکن ہونا۔ ـــ تِ الناقةُ اونٹنی کا زیادہ دودھ والی ہونا۔ السَّاجِي (فا): ساکن۔ نرم۔ کہتے ہیں۔ عینٌ سَاجِيَة: ساکن تھکی ماندہ جھکی ہوئی آنکھ۔ لَيْلَةٌ سَاجِية: سنسان رات۔ اِمْرَاَةٌ سَجْواء الطرف: غیر متحرک آنکھ والی عورت۔ نَاقَةٌ سَجْوَاء: دودھ دینے کے وقت آرام سے کھڑی رہنے والی اونٹنی۔ رِيحٌ سَجْوَاء: نرم ہوا۔ السَّجِيَّة جمع سَجِيَّات و سَجَايَا: طبیعت، خصلت، خُلق۔

○ سَجَا يَسْجُو سَجْوًا و سُجُوًّا: (رات، سمندر) کا خاموش اور پر سکون ہونا۔ تَسَجَّى ہ: (کوئی لباس، کپڑا وغیرہ) اوڑھ لینا۔ سَجِيَّة جمع سجيات و سَجَايَا: طبیعت، مزاج، خو، افتاد طبع، ذہنیت، فطرت، فطرت خصائل، کردار سیرت، اخلاق، اخلاقی قوت جمع سَجِيَّات و سَجَايَا: خصوصیت، وصف،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

امتیازی وصف، طرہ امتیاز۔ ـــ عن سجیة: از خود، خود بخود، آپ ہی آپ بیساختہ ساجن: خاموش پرسکون تاریک (رات) مُسَجًّی: کفنائی ہوئی لاش وہ لاش جس کی تجہیز و تکفین ہو چکی ہو۔

۲۔ سَاجَی هُ: کو چھونا کہتے ہیں۔ اتانا بالطعام فما ساجیناه: وہ ہمارے پاس کھانا لایا مگر ہم نے اس کو نہیں چھوا۔

سح: ا۔ سَحَّ ۔ُ سَحًّا: بہت موٹا ہونا۔ و۔ الماءَ: پانی کو لگا تار بہت بہانا۔ اسی سے ہے۔ اِسْتَنْشَدْتُهُ قصیدةً فَسَحَّهَا عليَّ سَحًّا: میں نے اسے شعر سنانے کے لئے کہا تو اس نے لگا تار بغیر رکے اشعار سنائے۔ ـــ هُ: کو مارنا۔ کہتے ہیں۔ سَحَّه مائة سوط: اس نے اسے سو کوڑے مارے۔ ـــ سَحًّا و سُحُوحًا: بہت بہنا۔ ـــ ِ سُحُوحًا و سُحُوحَةً تِ الشاةُ: بکری کا موٹاپے کی وجہ سے ایسا چربی دار ہونا گویا کہ چربی اس سے ٹپکی پڑتی ہے۔ سَاحّ و سَاحّةٌ جمع سِحَاح و سُحَاح: خوب موٹی اور خوب چربی دار (بکری)۔ تَسَحَّحَ: بہت بہنا۔ اِنْسَحَّ اِبطُ البعیر عرقًا: اونٹ کی بغل سے پسینہ بہنا۔ السَّحَاح: ہوا، غارَةٌ سَحَّاء: دشمن پر اچانک مصیبت لانے والی لوٹ مار، حملہ۔ عینٌ سَحَّاحة: بہت آنسوؤں والی آنکھ۔ سَحابَةٌ سَحُوح: بہت بارش لانے والا بادل ۔ فرسٌ مِسَحّ: عمدہ تیز رفتار گھوڑا۔

۲۔ السَّحُّ و السُّحّ: خشک متفرق کھجور، خرما۔

۳۔ تَسَحْسَحَ الماءُ: پانی کا اوپر سے بہنا۔ السَّحْسَح والسَّحْسَاح من المطر: شدید بارش، گھر کا صحن۔

○ سَحَّ ۔ُ سَحًّا و سُحوحًا: بہنا، چلنا، پانی کی دھار گرنا۔ سَحَّتِ السماءُ: موسلا دھار بارش ہونا۔ عینٌ سَحَّاحَةٌ: اشکبار آنکھ۔

سحب: ا۔ سَحَبَ ۔َ سَحْبًا: کو زمین پر گھسیٹنا۔ کہتے ہیں۔ جاء یسحب ذیلَهُ: وہ مغرورانہ چال سے آیا۔ سَحبَ السیفَ: تلوار سونتنا۔ اسی سے ہے۔ سحبُ اوراق المعاملات: دستاویز وغیرہ مرتب کرنا لکھنا۔ سحبُ الیقصیب: لاٹری نکالنا، قرعہ اندازی کرنا۔ اِنْسَحَبَ: زمین پر گھسٹنا۔ السُّحْبَة: آنکھ پر آجانے والا پردہ جو نظر کو کمزور کرتا ہے۔ السَّحَاب جمع سُحُب: واحد سَحَابة جمع سَحَائب: بادل کہتے ہیں۔ اقمتُ عنده سحابةَ یومنا: میں نے سارا دن اس کے پاس قیام کیا۔

۲۔ سَحَبَ ۔َ سَحْبًا الرجُلُ: بہت کھانا پینا۔ تَسَحَّبَ من الاکلِ او الشربِ: بہت کھانا یا پینا۔

۳۔ تَسَحَّبَ فی حق فلان: کسی کا حق غصب کر کے اپنے میں ملا لینا۔

۴۔ تَسَحَّبَ علیه: پر ناز کرنا۔

۵۔ السُّحْبَةُ و السُّحَابة: تالاب میں باقیماندہ پانی۔

۶۔ السَّحْبَل: فراخ وادی، بڑی مشک، بڑا پیٹ۔

○ سَحَبَ ۔َ سَحْبًا: زمین پر گھسٹتے ہوئے چلنا۔ سَحَبَ هـ: کو گھسیٹنا۔ ـ ہ و هـ: کو (کوئی اقدام، حکم وغیرہ) واپس لے لینا۔ ـــ هم عن: (فوجیوں) کو سے واپس کرنا یا سے نکال لینا۔ سحب منه هـ: سے کوئی چیز لے لینا، ہتھیا لینا، کو سے بیدخل کرنا کو سے محروم کرنا۔ ـ (الماءَ): پانی نکالنا۔ ـ (هـ): روپیہ پیسہ حساب سے نکلوانا۔ دستاویز وغیرہ مرتب کرنا، لکھنا، لاٹری نکالنا۔ ـــ ہ علی: (قانون وغیرہ) کو کسی پر لاگو کرنا، چسپاں کرنا، منطبق کرنا۔ سحب العمل به علی: کو پر منطبق کرنا۔ اِنْسَحَبَ: گھسٹنا کوشش کرنا۔ اِنْسَحَبَ من: سے پسپا ہونا، سے نکل آنا سے واپس آجانا۔ انسحب علی: قانون کا کسی پر لاگو ہونا، چسپاں ہونا منطبق ہونا۔ سحب: (فوجوں کی) پسپائی یا واپسی (اقدامات کا) واپس لینا، (حقوق سے) پیچھے ہٹنا۔ (مال) نکلوانا۔ سَحَابَةَ: کے دوران سحابةَ النهار (الیوم): سارا دن آج سارا دن۔ سرنا سحابةَ یومنا: ہم تمام دن چلتے رہے ہیں۔ سحابةَ اربعةِ قرون: چار صدیوں کے دوران۔ سَحَّاب: زپ zipper slide انسحاب: واپسی، پسپائی، سے نکل آنا، انخلا (عسکری) استعفا، دست برداری، پھیلاؤ، وسعت، اضافہ۔ سَاحِب: (چیک) کاٹنے والا المسحوب علیه: جس کے نام چیک کاٹا جائے۔

سحت: ا۔ سَحَتَ ۔َ سَحْتًا و سَحَّتَ: حرام مال کمانا۔ أَسْحَتَ تجارتُه: تجارت میں کھوٹ اور حرام مل جانا ۂ: کو خراب کرنا۔ السُّحْت و السُّحُت: جمع اَسْحَات: حرام۔ حرام و ناجائز کمائی، نجس و ناپاک کمائی، جس سے عار لازم آئے مثلاً رشوت۔

۲۔ سَحَتَ ۔َ سَحْتًا هُ: کو ہلاک کرنا اور بیخ و بن سے اکھیڑنا۔ ذبح کرنا و سَحَتَ الشَّحْمَ عن اللحم: چربی کو گوشت سے چھیل کر علیحدہ کرنا وجهَ الارضِ: کو مٹانا۔ سَحَّتَ هُ: کو ہلاک کرنا، بیخ و بن سے اکھیڑنا، ذبح کرنا۔ أَسْحَتَ هُ: کو ہلاک کرنا، بیخ و بن سے اکھیڑنا۔ أُسْحِتَ: کا مال تباہ ہونا۔ رجلٌ سُحُتٌ: بہت کھاؤ اور سیر نہ ہونے والا آدمی۔ مال سُحْتٌ و سُحُتٌ: تلف شدہ مال، ہلاک شدہ مال۔ السَّحْت (مص): بوسیدہ کپڑا۔ دکھ، عذاب کہتے ہیں۔ ماله او دمُهُ سحتٌ: اس کا مال یا خون تلف کرنے والے کے لئے حلال ہے۔ عامٌ اُسْحَتُ وارضٌ سَحْتَاء: خشک سال اور روئیدگی سے خالی زمین۔ رجُلٌ سَحِیتٌ: بہت کھاؤ اور سیر نہ ہونے والا آدمی۔ مالٌ سَحِیتٌ: تلف شدہ مال، ہلاک شدہ مال۔ السَّحِیتَة جمع سَحَائِت: سب کچھ بہا لے جانے والا بادل۔ مالٌ مُسْحَتٌ: تلف شدہ ہلاکت شدہ مال۔ مالٌ مَسْحُوتٌ: تلف شدہ، ہلاکت شدہ مال۔ مَسْحُوتُ الجوفِ او المعدةِ: نہ سیر ہونے والا، بدہضمی سے تکلیف اٹھانے والا (ضد) السُّحْتُوت و السَّحْتِیّ: پرانا کپڑا۔

۳۔ السُّحْتُوت و السِحْتِیت: کم چکنائی اور زیادہ پانی والا ستو۔ تھوڑی چیز۔

○ سُحْت و سُحُت جمع اُسحات: ممنوع اور پابندی لگی ہوئی چیز، حرام کا مال، حرام کی جائیداد۔

سحج: سَحَجَ ۔َ سَحْجًا و سَحَّجَ هُ: کو چھیلنا ـــ الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری چیز سے رگڑ کر چھیلنا۔ مَسْحُوج و سَحِیج: چھیلی ہوئی (چیز) تَسَحَّجَ اِنْسَحَجَ: چھلنا السَّحَّاج: بہت چھیلنے والا۔ زمنٌ سَحَّاج: سخت زمانہ جو ہر شئے کو چھیل ڈالے۔ المِسْحَج: بہت کاٹنے والا۔ المِسْحَاج بمعنی مِسْحَج: لکڑی کاٹنے کا چاقو وغیرہ۔ زمنٌ مِسْحَاجٌ: سخت زمانہ۔

۲۔ سَحَجَ ۔َ سَحْجَاتِ الدابّةُ: جانور کا بہت تیزی سے ذرا کم دوڑنا۔ السَّحُوج: بہت قسمیں کھانے والی عورت۔ قسم کھانے کی عادت والی عورت۔ المِسْحَجُ من الدواب: تیز چلنے والا جانور۔ المِسْحاج بمعنی سَحُوج ـ من الدوابّ: بمعنی مِسْحَج۔

○ سَحَجَ ۔َ سَحْجًا (هـ): کو چھیلنا، تراشنا، چھیل کرا اتارنا، دور کرنا، ـ هـ: (کھال) چھیلنا، رگڑ ڈالنا، کھرچ دینا۔ ـــ هـ: کو اتار دینا۔ سَحَّجَ ہ: کو چھیلنا، رگڑ ڈالنا، اتار دینا، تراشنا۔ مِسْحَج جمع مَسَاحِج: رندہ مِسحَجَة جمع مَسَاحِج: رندہ کرنے والی مشین، رندہ کرنے والا۔ مَسْحُوج: (کھال کی خراش کی طرح) تکلیف دہ، یا جہاں سے گوشت نکل آیا ہو۔

سحر: سَحَرَ ۔َ سِحْرًا هُ: کو دھوکا دینا، پر جادو کرنا، کو فریفتہ کرنا، رجھانا، لبھانا، لٹو کرنا، کا دل چرانا۔ ـ هُ عن كذا: کو سے پھیرنا سے دور کرنا ہٹانا۔ ـــ عن الامر: کسی معاملہ سے دور رہنا ـــ الفضّةَ: چاندی پر

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سونے کا گلٹ کرنا۔ ـــ سَحَرًا المطرُ الطینَ: بارش کا مٹی کو خراب کرنا۔ سَحَّرَہٗ: پر جادو کرنا۔ السِحْر (مص) جمع أَسْحَار و سُحُور: وہ چیز جس کا ماخذ لطیف و باریک ہو۔ جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا، حیلہ بازی، فساد، ہر وہ چیز جس کے حصول میں شیطانی تقرب سے مدد لی جائے کہتے ہیں۔ ان من البیان لسِحرًا: تقریر ایک جادو ہے۔ السِحْرُ الکلامِی: کلام کی رنگین بیانی جو دلوں پر گہرا اثر ڈال کر خیالات میں انقلاب پیدا کردے اور جادو کا سا رنگ دکھائے۔ الساحِر (فا): جمع سَحَرة و سُحَّار و سَحَّار و ساحِرُون م الساحرة جمع ساحرات و سَوَاحر: جادوگر، عالم۔ السحَّار: بمعنی ساحر المُسَحَّرَ: خوف زدہ، جادو کیا ہوا۔ المَسْحُور (مفع): خراب شدہ کھانا، بارش کی زیادتی یا کسی اور سبب سے ناکارہ و خراب جگہ۔ ارضٌ مَسْحُورة: بنجر زمین۔ عَنْزَةٌ مُسْحُورَة: کم دودھ والی بھیڑ۔

۲۔ سَحَرَ - سَحْرًا ہٗ: کے پھیپھڑے پر مارنا۔ مَسْحُور و سَحِیر: جس کے پھیپھڑے پر ضرب لگائی گئی ہو۔ سَحِرَ - سَحَرًا: ڈول وغیرہ کے کھینچنے سے پھیپھڑے کا کٹ جانا۔ سَحِرٌ، سَحِیرٌ: ایسا شخص جس کا پھیپھڑا ڈول وغیرہ کھینچنے سے کٹ گیا ہو۔ السَحْر ز السَّحَر والسُحُر جمع سُحُورٌ و سُحُرٌ و اسحارٌ (ع ا): پھیپھڑا کہتے ہیں۔ انتفخ سَحْرُہٗ: وہ بزدل ہو گیا (گویا خوف نے اس کا پیٹ بھر دیا تو اس کا پھیپھڑا پھول گیا۔) مات فلانٌ بین سَحْرِی و نَحْرِی: وہ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے فوت ہو گیا۔ انقطع منہُ سَحْرِی: اس سے وابستہ میری امید ٹوٹ گئی۔ میں اس سے ناامید ہو گیا۔ السُحارَۃ (ع ا): پھیپھڑا۔ ـــ من الشاۃ: بکری کے پھیپھڑے اور نرخرہ جسے قصائی جدا کر لیتا ہے۔ عوام اس کو المِعْلاق و القَصَبة کہتے ہیں۔ المُسَحَّر: جس کا پھیپھڑا نکال دیا گیا ہو۔

۳۔ سَحَرَ - سَحَرًا: صبح سویرے آنا۔ سَحَّرَہٗ: کو سحری کھلانا یا دینا۔ أَسْحَر: صبح کے وقت جانا، صبح ہونا۔ تَسَحَّر: سحری کھانا۔ اِسْتَحَر: صبح ہونا یا صبح کو روانہ ہونا۔ ـــ الدیكُ: مرغ کا صبح کو بانگ دینا۔ السَحَر جمع أَسْحار: صبح سے کچھ پہلے رات کا آخری حصہ۔ ہر چیز کا کنارہ ـــ الاعلی: صبح کاذب۔ ـــ الآخر: صبح صادق۔ السَحَرِیُّ والسَحَرِیَّة: صبح سے کچھ پہلے کا وقت۔ السُحْرَۃ: صبح کاذب۔ السَحُور: سحری کا کھانا و پینا۔

۴۔ سَحَّرَہٗ: کو کھانا دینا اور بار بار پلانا۔ السحِیر: موٹے پیٹ والا، پیٹ کی بیماری والا۔

۵۔ السَوْحَر (ن): بید کا درخت۔

○ سَحْر و سُحْر جمع سُحُور و اسْحار: پھیپھڑے۔ جسم میں وہ جگہ جہاں پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ سِحر: لبھانا، رجھانا، فریفتہ کرنا، دھوکا دینا، دھوکے سے کام لینا، مسحوری، سحرزدگی، جادو سحر، دل کشی، دِلربائی۔ جمع اسحار و سُحُور: جادو، جادوگری، سحر، افسون، فسوں طرازی، کالا علم، شعبدہ بازی (عورت کا) حسن و جمال، دل آویزی، دلبری و دلربائی۔ سِحْری: جادو کا۔ فانوسٌ سِحری: جادو کی لالٹین۔ Magic lantern سلائڈ (فلم) پروجیکٹر Slide projector۔ سَحَّارہ جمع سحّارات: زمین دوز بدرو۔ جمع سجاحیر: کیس، کریٹ، پیٹی، صندوق۔

سحط: سَحَطَ - سَحْطًا و مَسْطَحًا ہٗ: کو جلدی سے ذبح کرنا۔ ـــ ہُ الطعامُ: کو کھانے سے پھندا لگنا۔ شاۃٌ سَحِیطٌ و سحوطة: ذبح شدہ بکری۔ المَسْحَط: حلق۔

۲۔ سَحَطَ - سَحْطًا و مسحطاً الشرابَ: شراب میں پانی ملانا۔

۳۔ سَحَطَ - سَحْطًا و مسحطًا السَخْلَ: بکری کے بچے کو اسکی ماں کے ساتھ کھلا چھوڑنا۔

۴۔ اِنْسَحَطَ من یدہ: ہاتھ سے پھسل کر گرنا۔ ـــ عن النخلة ونحوھا: کھجور وغیرہ کے درخت سے لٹکنا اور اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے بغیر اترنا۔

سحف: ا۔ سَحَفَ - سَحْفًا الشَعَرَعن الجلد: بال کو کھال سے چھیلنا۔ و۔ الرأسَ: سر مونڈنا۔ ـــ تِ الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اڑا لے جانا۔ اَسْحَفَ السَحْفَةَ: پیٹھ کی چربی فروخت کرنا۔ ـــ تِ الریحُ السحَابَ: ہوا کا بادل کو اڑا لے جانا۔ السُحاف (طب): سل کی بیماری۔ السَحْفَة جمع سِحَاف: پیٹھ کی چربی۔ السَحوُف: ہر چیز کو بہا لے جانے والی تیز بارش۔ ناقةٌ سَحوُف: بے چربی والی اونٹنی، زیادہ چربی والی اونٹنی۔ السَحِیفَة جمع سَحَائف: ہر چیز کو بہا لے جانے والی تیز بارش۔ چھیلی ہوئی چربی۔ مَسْحَفُ الحیَّة: زمین پر سانپ رینگنے کے نشانات۔ المِسْحَفَة: گوشت اور چمڑا چھیلنے کے اوزار۔ ارض مسحفة: باریک گھاس والی زمین۔ رجل مَسْحُوف: سِل کی بیماری والا۔

۲۔ ناقة سَحُوفٌ: بے چربی والی اونٹنی جس کے تھن لمبے ہوں اور تھنوں کے سوراخ تنگ۔ السَحِیف: آٹا پیسنے کی چکی کی آواز جب وہ چکی آٹا پیس رہی ہو۔ دودھ دوہنے کی آواز۔

سحق: ا۔ سَحَقَ - سَحْقًا ہٗ: کو خوب کوٹنا، باریک کرنا۔ ـ الشیءَ الشدیدَ: سخت چیز کو نرم کرنا۔ ـــ ت الریحُ الارضَ: ہوا کا تندی کی وجہ سے زمین کو چھیل ڈالنا۔ ـ الرأسَ: سر کو مونڈنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو پرانا کرنا۔ پھٹا پرانا کرنا۔ ـــ تِ العینُ دمعھا: آنکھ کا آنسو بہانا۔ سَحُقَ - سُحُوقَةً الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا، پھٹا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا۔ سَحَّقَ: سَحَقَ کا مبالغہ کا صیغہ۔ اَسْحَقَ الثوبُ: کپڑے کا پھٹا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا۔ کپڑے کا نیا ہونے پر بھی روان جھڑ جانا۔ ـــ خُفُ البعیرِ: اونٹ کی ٹاپ کا گھس جانا۔ و۔ الضرعُ: تھن کا دودھ سے خالی ہو کر اور سکڑ کر پیٹ سے لگ جانا۔ اِنْسَحَقَ: باریک ہونا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا نیا ہوتے ہوئے روان جھڑنا۔ ـــ تِ الدلوُ: ڈول میں کچھ نہ رہنا۔ ـــ القلبُ: دل کا شکستہ و ذلیل ہونا۔ السَحْقُ (مص) ج سُحُوق: بوسیدہ، پھٹا پرانا کپڑا۔ کہتے ہیں۔ ثوبٌ سَحْقٌ و سَحْقُ ثوب: صفت اور اضافت کے ساتھ بمعنی پھٹا پرانا کپڑا۔ کہتے ہیں۔ سحقُ درھم: جعلی، کھوٹا درہم۔ مِسْكٌ سحیقٌ: باریک پسی ہوئی مشک۔ السَحِیقَة جمع سَحَائِق: تیز بارش جو ہر چیز کو بہا لے جائے جس پر اس کا گزر ہو۔ السَحَّاقَةُ: بہت پیسنے والا۔ المِسْحَق: جس چیز سے پیسا جائے۔ دَمعٌ مُنْسَحِق جمع مساحیق: (نادر) بہتا آنسو کہتے ہیں۔ جرت من عینہ مَساحیقُ اللموعِ: اسکی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جاری ہوئے۔

۲۔ سَحَقَ - سَحْقًا ہٗ: کو ہلاک کرنا۔ ـــ القملةَ: جوں کو مار ڈالنا۔ أَسْحَقَہٗ: کو ہلاک کرنا۔ تساحَقَا: ایک دوسرے کو مار ڈالنا، ہلاک کر دینا۔

۳۔ سَحَقَ - سَحْقًا ہُ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے۔ سَحِق - سَحْقًا: دور ہونا۔ سَحُقَ - سُحْقًا: دور ہونا۔ و۔ سُحُوقَةً تِ النخلةُ: خرما کے درخت کا لمبا ہونا۔ سَحوُق جمع سُحُق: (خرما کا) لمبا درخت۔ أَسْحَقَہٗ: کو دور کرنا۔ ـــ الرجلُ: دور ہونا۔ اِنْسَحَقَ الشیءُ: چیز کا دور ہونا، وسیع ہونا۔ السُحْقُ والسُحُق: دوری کہتے ہیں۔ سُحْقًا لَہٗ: اللہ اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ (سحق: مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے معنی ہے۔) سَحَقَہُ سحقاً: السَحِیق: دور، بعید۔ السَحِیقَة جمع سَحَائِق: سحیق کا مونث۔ الأَسْحَق: بعید،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دور۔ السوحقَ: لمبا، لمبا آدمی۔

○ سَحَقَ ہ / ہ: کو پیسنا، کچل ڈالنا۔ ہ: کو خراشنا، رگڑنا، کا سفوف بنانا، کا پاؤڈر بنانا (فوج وغیرہ) کو نیست و نابود کرنا، برباد کرنا، تباہ کرنا، فنا کرنا، کا نام و نشان مٹاڈالنا، کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا۔ سَحَّقَ: نیست و نابود کرنا وغیرہ، کچل ڈالنا، تباہ کرنا۔ تَسَحَّقَ وانسحق: پسنا، کچلا جانا، خراش آنا۔ سُحقًا له: جائے جہنم میں، جائے بھاڑ میں، مرے کمبخت!

سحیق: دور، بعید، گہرا، اتھاہ، بے پایاں۔ سِحاق و مُساحقة: نسوانی ہم جنس پرستی Lesbianism۔
انسحاق القلب: ندامت، پشیمانی، توبہ۔ مَسْحُوق جمع مساحیق: پاؤڈر مَسحُوق الفحم: کوئلے کا چورا Coal Dust مُنسَحِقُ القلب: نادم، پشیمان، متاسف، تائب۔

سحل: سَحَلَ - سَحْلاً الشیءَ: کو چھیلنا، پیسنا، کوٹنا، کاٹنا، تراشنا۔ ہُ مائةَ سوطٍ: کو سو کوڑے مارنا۔ سَحْلاً و سُحُولاً تِ العینُ: آنکھ کا رونا۔ ساحَلَ القومُ باولادهم: اولاد کو ساحل پر لانا۔ انسحل: چھلنا، پسنا، باریک ہونا، کٹنا، تراشا جانا۔ تِ الدراهمُ: درہموں کا چمکدار ہونا۔ السّاحِل جمع سَواحِل: ساحل، سمندر کا کنارہ۔ السُّحالَةُ: سونے یا چاندی کا برادہ، گیہوں اور جو وغیرہ کی بھوسی۔ گھٹیا لوگ، اراذل۔ المِسْحَل جمع مَساحِل: سنگ تراشی کا اوزار، چھلنی جلاد، بہت بارش۔ المَسْحُول (مفع): ہموار کشادہ جگہ۔ الأساحِل: پانی بہنے کی جگہیں، نالیاں۔

۲۔ سَحَلَ - سَحْلاً الرجلَ: کو گالی دینا، ملامت کرنا۔ ساحَلَ هُ: ایک دوسرے کو گالی دینا، ملامت کرنا۔ أُسْحِلَ هُ: کو گالی خوردہ پانا۔ اِنسَحَلَ بالکلام: بات چیت جاری کرنا۔ المِسْحَل جمع مَساحِل: زبان، فصیح مقرر۔

۳۔ سَحَلَ - سَحْلاً الثوبَ: کپڑے کو کچے دھاگے سے بننا۔ الحبلَ: ایک لڑی کی رسی بٹنا۔ السَّحْل (مص): جمع اَسْحال و سُحُول و سُحُل و السحیل: کچے سوت سے بنا ہوا کپڑا۔ ایک لڑی کی بٹی ہوئی رسی۔ المِسْحَل جمع مَساحِل: ایک لڑی کی بٹی ہوئی رسی۔

۴۔ سَحَلَ - سَحْلاً الغریمَ مائةَ درهم: قرض خواہ کو سو درہم نقد ادا کرنا۔

۵۔ سَحَلَ - سَحِیلاً و سُحالاً البغلُ: خچر کا ہنہنانا۔

۶۔ السِّحال: لگام۔ السُّحْلَة (ح): اپنی ماں سے جدا ہونے والا چھوٹا خرگوش۔ الأُسْحُل (ن): وہ درخت جس سے مسواکیں بنائی جائیں۔

المِسْحَل جمع مَساحِل: لگام، بہادر، چست ساقی، پختہ ارادہ، گمراہی۔ (کہتے ہیں رکب فلان مِسحَلَهُ: فلاں شخص نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا)۔ خسیس آدمی، شیطان، داڑھی کا کنارہ، توشہ دان کا مونہ۔ بہت پانی والا پرنالہ۔ شابٌّ مُسْحُلانٌ و مُسْحُلانِی م مُسْحُلانَة و مُسْحُلانِیَة: سیدھے یا لمبے بالوں والا نوجوان۔ المَسْحُول: چھوٹا حقیر۔

۷۔ السَّحْلَب: ثعلب مصری، ثعلب مصری سے تیار کردہ کھانا۔

○ سُحالة: برادہ سِحْلِیَة جمع سَحالٍ: چھپکلی، چلپاسہ۔ مِسْحَل جمع مَساحِل: رندہ، ریتی، ہموار کرنے والا اوزار۔

سحم: سَحِمَ - و سَحُمَ - سُحَمًا: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ اَسْحَم م سَحْماء: جمع سُحْم: کالا، سیاہ۔ سَحَّمَ وجهَهُ: کے چہرے کو کالا کرنا۔ اَسْحَمَتِ السماءُ: آسمان کا پانی برسانا، برسنا۔ السَّحَم: لوہا السَّحْمَة: لوہے کا ٹکڑا۔ السُّحْم: لوہار کے ہتھوڑے۔ السُّحام و السَّحام و السُّحْمَة: سیاہی کا لک۔ الأَسْحَم: سرپستان، سیاہ بادل، سینگ، شراب کی مشک، وہ خون جس میں قسم کھانے والے ہاتھ ڈبوتے ہیں۔

سحن: ۱۔ سَحَنَ - سَحْنًا الحجرَ: پتھر توڑنا۔ الخشبةَ: لکڑی کو رگڑ کر نرم و ملائم کرنا۔ الشیءَ: کو پیسنا، باریک کرنا۔ المِسْحَنَة جمع مَساحِن: پتھر توڑنے کا اوزار۔

۲۔ ساحَنَ هُ: سے ملاقات کرنا، ملنا، سے اچھی طرح پیش آنا، کے رنگ و روپ اور چہرہ مہرہ کو دیکھنا۔ هُ الشیءَ: کسی چیز میں شرکت کرنا۔ تَسَحَّنَ هُ: کے رنگ و روپ اور چہرہ مہرہ کو دیکھنا۔ السَّحْنَة و السَّحَنَة والسُّحْناء والسَّحْناء: رنگ و روپ، کھال کی نرمی اور آب و تاب۔

○ سَحَنَ - سَحْنًا ہ: کو پیسنا، کچلنا، رگڑ کر نرم کرنا۔ سَحْنَة و سَحَنَة جمع سَحَنات و سُحَن: ظاہری شکل، وضع قطع، صورت شکل، چہرے کا اظہار، سج دھج، چال ڈھال۔ مِسْحَنَة: جمع مساحن: دستہ (جیسے ہاون دستہ)

سحا: ۔ سَحْیًا هُ: کو چھیلنا۔ الطینَ: مٹی کو کھرچنا۔ ساحٍ جمع سُحاة و ساحُون م ساحیة: کھرچنے والا۔ الشعرَ: بال مونڈنا۔ اِسْتَحَی اِسْتِحاءً الشیءَ: کو چھیلنا۔ الشعرَ: بال مونڈنا۔ الساحِیَة: سیلاب، شدید بارش۔ السَّحّاء: بیلچے بنانے والا۔
السِّحایَة: چھیلن۔ بادل کا ٹکڑا، بیلچہ بنانے کا پیشہ۔
الأُسْحُوان: بہت کھانے والا پیٹو۔ المِسْحاة جمع مَساحٍ: بیلچہ، کدال۔

۲۔ سَحا - سَحْوًا و سَحّیَ تَسْحِیَةً وأَسْحَی اِسْحاءً الکتابَ: کتاب کی باریک چمڑے سے جلد باندھنا۔ السِّحاء جمع أَسْحِیَة: واحد سِحاءَةٌ من الکتاب: کتاب کی جلد کے لئے باریک چمڑا۔ السِّحاءَة جمع سَحایا والسِّحایَة (ع ا): دماغ کی جھلی۔

۳۔ اِسْتَحَیَ منه: سے شرمانا، حیاء کرنا (مادہ حی میں مذکور ہے)

۴۔ السَّحاة جمع سَحًی: صحن، کھلی جگہ، جانب۔ الأُسْحُوان: خوبصورت دراز قد۔

سخ: ۱۔ سَخَّ - سَخّاتِ الجرادةُ: ٹڈی کا زمین میں دُم چبھونا۔ فی السیر أو الحفر: دور تک چلنا یا کھودنا۔ السَّخاخ: نرم، عمدہ زمین۔

۲۔ السخاسخ: نرم، عمدہ زمین۔

سخب: السَّخَب: شور السِّخاب: جمع سُخُب: لونگوں کا ہار۔ کہتے ہیں ”وَجَدتُكَ وارثَ السخاب“: میں نے تجھے بچہ کی طرح نا سمجھ پایا۔

سخت: ۱۔ اِسْخاتَّ اِسخیتاتًا الجرحُ: زخم کے ورم کا ہلکا ہونا۔ السُّخْت: گوبر۔ السَّخْت والسَّخِیت: سخت المَسْخُوت: چکنا، چمکیلا۔

۲۔ السِّخْتِیان والسَّخْتِیان: بکری کی رنگی ہوئی کھال۔

سخر: ۱۔ سَخَرَ - سِخْرِیًّا و سُخْرِیًّا و سَخْرَةً: سے بیگار لینا، کو مغلوب کرنا، کو ذلیل کرنا۔ سَخِرَ - سَخَرًا و سُخْرًا و سُخُرًا و سُخْرَةً و مَسْخَرًا به و منه: سے ٹھٹھا کرنا۔ ”انا اقول هذا ولا أسخر“: میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ سنجیدگی سے سچ بات کہہ رہا ہوں۔ تَسَخَّرَ و اسْتَسْخَرَهُ: سے بیگار لینا۔ — به و منه: سے ٹھٹھا کرنا۔ السُّخْرَة: جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ بیگاری، بیگار، رضا کارانہ کام۔ (عام بول چال میں) السُّخَرَة: جو لوگوں سے ٹھٹھا کرے۔ السُّخْرِیّ والسُّخْرِیَّة: سخر کا اسم بیگار، ٹھٹھا۔ مَخُول السِّخْرِیّ: ٹھٹھا، بیگار۔ المَسْخَرَة: وہ جس سے ٹھٹھا کیا جائے (عام بول چال میں)۔

۲۔ سَخَرَ - سَخْرًا تِ السفینةُ: کشتی کا اچھی رفتار سے چلنا۔ ساخِرَة جمع سَواخِر: اچھی رفتار سے چلنے والی (کشتی)۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ سَخِرَ ـ سَخَراً و سَخْراً و سُخْراً سُخُراً و سُخْرَةً و مَسْخَراً ب يامن: کی ہنسی اڑانا، پرہنسنا، کا مذاق اڑانا، پرفقرے کسنا، پرپھبتی کسنا، کا منہ چڑانا، کی تضحیک کرنا، سے مذاق کرنا، کو چھیڑنا۔ سَخَّره / ه ل: کو کا زیرنگیں کرنا، محکوم بنانا، تابع فرمان کرنا کا یا کے مقصد کے لئے)۔ ه لِ: کے لئے کارآمد بنانا۔ کے لئے کام کے قابل بنانا۔ ـــ ه ل: کے لئے کام پر لگانا، استعمال میں لانا، کا مصرف ڈھونڈنا، کے لئے مفید بنانا، کے لئے استعمال کرنا۔ ـــ ه / ه ل: کے لئے سے پوری طرح استفادہ کرنا، پورا استعمال کرنا۔ تَسَخَّرهُ: کو غلام بنانا، زیر کرنا، مغلوب کرنا، زیرنگیں کرنا۔ سُخْرة: اُضحوکہ، تمسخر کا نشانہ، بیگار، خواہ مخواہ کی مصیبت یا بلا، قانونی مزدوری، جبری مزدوری یا محنت۔ رجال السُخرہ: زرعی غلام زمین کے ساتھ بک جانے والے غلام، کاشتکار۔ أعمالُ السُخرة: جبری محنت غلاموں سے لی جانے والی مزدوری۔ سِخْرِی: اضحوکہ، تمسخر کا نشانہ، جبری مزدوری یا محنت، قانونی مزدوری، بیگار۔ مَسْخَرَة جمع مَسْخَرات و مَسَاخِر: مہمل، بیہودہ، احمقانہ، مضحکہ خیز، بہروپی ناچ، اضحوکہ، تمسخر کا نشانہ۔ مُسَخِّر: بے انصاف، ظالم۔

سخط: سَخِطَ ـ سَخَطًا الرجل وعليه: پر غضبناک ہونا۔ ـ الشيءَ: کو ناپسند کرنا۔ اسْخَطَ هُ: کو غضبناک کرنا۔ تَسَخَّطَ هُ: سے ناراض ہو کر غیظ وغضب میں آنا اور اسے ناپسند کرنا۔ ـــ هُ العطاءَ: بخشش کو کم سمجھنا۔ السُخْط و السُخُط والسَخَط: ناراضگی، غصہ۔ المَسْخَط والمَسْخَطة جمع مَسَاخِط: غصہ میں لانے والی چیز، باعث غضب۔ المَسْخُوط (مفع): مکروہ، ناپسندیدہ کہتے ہیں۔ امرٌ مَسْخُوط: ناپسندیدہ بات۔

○ سِخِطَ ـ سَخَطاً هُ / ه / على: پر برہم ہونا، جھنجھلانا، غصہ ہونا۔ ـــ ه / على: سے ناخوش ہونا، ناراض ہونا۔ ـــ ه / على: پر برا منانا۔ أسْخَطَ ه: کو ناخوش کرنا، تلخ بنانا میں تلخی پیدا کرنا، کو غصہ دلانا، اشتعال دلانا، بھڑکانا، غضبناک کرنا۔ تَسَخَّطَ: بمعنی خط۔ سُخْط و سُخُط و سُخَط: ناخوشی، بے اطمینانی، برہمی، خفگی، غصہ، آزردگی، جھلاہٹ، سخت غصہ، اشتعال، غضب، طیش، قہر، تلخی، بغض، کینہ۔ مَسْخُوط: قابل نفرت، ناپسندیدہ، نفرت کیا گیا، کریہ، نفرت انگیز۔

سخف: سَخُفَ ـ سُخْفاً و سَخَافَةً: کمزور عقل والا ہونا۔ سَخَّفَ هُ: کو کم عقل ٹھہرانا۔ سَاخَفَ هُ: کی حماقت میں مدد کرنا۔ السُخف والسَخف: عقل کی کمزوری۔ السُخْفَة والسَخُفَة: کم عقلی کہتے ہیں۔ هـذا من سُخْفَة عقلك: یہ تمہاری کم عقلی کی وجہ سے ہوا۔ السَخِيف: کم عقل، کمزور عقل والا۔ رجلٌ سخيف: کم عقل آدمی۔ سخيفُ العقل: ناقص العقل۔ رأيٌ سَخِيف: کمزور رائے۔

۲۔ سَخُفَ ـ سُخْفاً و سَخَافَةَ الغزلُ: دھاگے کا باریک ہونا۔ ـــ السقاءُ: مشک کا کمزور ہونا، پھٹنا۔ السَخْف: تنگ گزارہ کی زندگی۔ السُخْفَة والسَخُفَة: لاغری، کمزوری۔ ثوبٌ سَخِيفٌ: گھٹیا، کتائی والا کپڑا۔ سحابٌ سخيف: باریک بادل۔ السخافة (مص): ہر چیز کی کمزوری۔ ارضٌ مُسْخِفَة: کم گھاس والی زمین۔

○ سَخُفَ ـُ سُخْفاً و سَخَافَةً: کمزور ہونا (عقل کا)، بیوقوف ہونا، احمق ہونا، کند ذہن ہونا، غبی ہونا۔ سَخُف و سُخْفٌ: کمزوری عقل، کم عقلی، سادہ لوحی۔ سخيف: بیہودہ، بیوقوف، احمق، سادہ لوح۔ سَخَافَة جمع سخافات: بیوقوفی، حماقت، احمقانہ حرکت، بچگانہ شوخی۔

سخل: سَخَلَ ـ سَخْلاً هُ: کو نکال دینا۔ أسْخَلَ الأمرَ: کو موخر کرنا، پیچھے ڈالنا۔ السَخْل من القوم جمع سُخَّل و سُخَّال رذيل السَخَالة: بیکار سمجھ کر پھینکی ہوئی چیز، بچا کھچا، بقیہ۔ المَسْخُول: فرد مایہ، گمنام اسی سے ہے۔ کواکب مسخوله: نامعلوم ستارے۔

۲۔ سَخَلَ ـ سَخْلاً الشيءَ: چیز کو دھوکے سے لینا۔

۳۔ سَخَّلَ هُ: پر عیب لگانا، کو کمزور کرنا۔ السَخْل جمع سُخَّل و سُخَّال: کمزور۔ السَخْلَة جمع سَخْل و سِخَال و سُخْلان و سِخَلَة: بکری کا بچہ۔

سخم: ۱۔ سَخِمَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ ـــ اللّٰهُ وَجْهَهٗ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو سیاہ رو کرنا ـــ السَخَم: سیاہی۔ السُخْمَة: سیاہی۔ السُخام: کوئلہ، ہانڈی کی سیاہی، پرندہ کے بازوؤں کے نیچے کے نرم وملائم پر (ز)۔ بعض پودوں کے پتوں کو لگنے والی بیماری جس سے وہ کالے پڑ جاتے ہیں، جیسے ہانڈی کالی ہو جاتی ہے۔ ـــ والسُخامی والسُخامِيّة: خوشگوار شراب۔ ليلٌ سُخام: تاریک، اندھیری رات۔ السُخامِي: سیاہ۔ الأسْخَم م سَخْماء جمع سُخْم: سیاہ۔

۲۔ سَخَّمَ هُ بصدره: کو غضبناک کرنا۔ تَسَخَّمَ عليه: سے کینہ رکھنا، پر غضبناک ہونا۔ السُخْمَة: نفرت، غصہ۔ السَخِيمَة جمع سَخَائِم: کینہ کہتے ہیں۔ سللتُ سَخِيمتهٗ بالطف والترضّي: میں نے لطیف انداز سے کینہ اس کے دل سے نکال دیا۔ المُسَخَّم (مفع): کینہ ور۔

۳۔ سَخَّمَ الماءَ: پانی گرم کرنا۔

○ سَخَّم ه: کو کالا کرنا، دھوئیں سے کالا کرنا۔ سخّم بصدره: کو برہم کرنا، برافروختہ کرنا، غصہ دلانا۔ تسخّم عليه: سے نفرت کرنا، کے خلاف کینہ رکھنا، سے ناخوش ہونا۔ سُخام: کالک، کلونس۔

سخن: ۱۔ سَخَنَ ـُ سُخُونَةً و سَخَانَةً و سَخْناً و سُخْناً و سُخْنَةً: گرم ہونا، عام لوگ سَخَن سے مراد بیمار ہونا لیتے ہیں۔ و۔ سَخَنَاهُ بالضرب: کو تکلیف دہ مار مارنا چنانچہ ما أسْخَنَ ضربَهٗ کا معنی ہے اس کی مار کتنی تکلیف دہ ہے۔ سَخِنَ ـَ سُخُونَةَ و سَخَانَةً و سَخْناً و سُخْناً و سُخْنَةً: گرم ہونا۔ و۔ سَخَناً و سُخُوناً و سُخْنَةً ث عينُه: آنکھ کا تکلیف سے جلنا۔ سَخُنَ ـُ سُخُونَةً و سَخَانَةً و سَخْناً و سُخْناً و سُخْنَةً: گرم ہونا۔ سَخَّنَ الشيءَ: کو گرم کرنا۔ أسْخَنَ الشيءَ: کو گرم کرنا۔ کہتے ہیں: أسخن عينَه و بعينه: اس نے اس پر ایسی مصیبت ڈال دی جس نے اسے رلا دیا۔ السَاخِن (فا): جمع سُخّان م سَاخِنَة: گرم۔ ليلة ساخِنَة: گرم رات، مریض (عام بول چال میں) السُخْن والسَخْنَان والسُخْنَان والسَخَنان: گرم السَخْن و السَخْنَة والسُخْنَة والسِخْنَة والسَخَنَة: بخار، گرمی، کہتے ہیں۔ عليك بالامر عند سُخْنته: معاملہ کو شروع میں ہی قابو کر لو۔ السُخَاخِين: گرم۔ ماءٌ سُخاخين: گرم پانی۔ السخونة: گرمی، بخار۔ السُخين: جو نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا۔ السَخِينَة (ط): آٹے سے تیار کیا ہوا کھانا، گرم کھانا۔ ماءٌ سِخِّين: گرم پانی۔ ضربٌ سِخِّين: تکلیف دہ مار۔ التَسَاخِين: ہانڈیاں۔ المِسْخَنَة جمع مَسَاخِن: ہانڈی، دیگچی۔

۲۔ السِخِّين جمع سَخَاخِين: کدال، بیلچہ، پھاوڑا، قصائی کی چھری، ہل کا دستہ۔ التَسَاخِين: موزے، جوتے، سلیپر، علماء کا سر پر ڈالنے کا کپڑا (اس کا واحد نہیں) کہتے ہیں اس کا واحد تَسْخَنٌ یا تَسْخَان ہے۔

○ سَخُنَ ـُ سَخِنَ ـَ و سَخَنَ ـُ سُخُونَةَ و سَخَانَةَ و سُخْنَةً: گرم ہونا، حرارت ہونا، بدن گرم ہونا۔ سَخَّنَ و أسْخَنَ ه: کو گرم کرنا، تپانا۔ سُخْن: گرم سَخَانَة: گرمی، حرارت، تپش۔ سُخُونة: گرمی،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

حرارت، تپش۔ سَخَّانُ میاہ: بوئلر، گرم پانی کی ٹینکی Boiler, hot water tank سَخَّانَة: گرم پانی کی بوتل سخّانةُ الحمّام: گرم حمام Bath heater آب تاب Geyser سَخَّانات: گرم پانی کے چشمے سَاخِن: گرم۔

سخا: ا۔ سَخَا ـُ و سَخِيَ ـَ و سَخُوَ ـُ سَخًا و سَخَاءً و سَخَاوَةً و سُخُوًّا و سُخُوَّةً: سخی ہونا، فیاض ہونا، کہتے ہیں۔ سخيتُ نفسي و بنفسي عن الشيءِ: میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا مگر میرے دل نے اس بارے میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ تَسَخَّى و تَسَاخَى: بناوٹی سخی بننا۔ السَّخَاوَة: فیاضی، سخاوت، بخشش۔ السَّخِيّ جمع أَسْخِيَاء و سُخْوَاء م سَخِيَّة جمع سَخَايَا و سَخِيَّات: فیاض، سخی۔ الارض السخواء جمع سَخَاوَى و سخاوٍ: نرم اور وسیع زمین۔ ارضٌ سَخَاوِيَّةٌ جمع سَخَاوِيّ: کشادہ نرم زمین۔

۲۔ سَخَا ـُ سَخْوًا و سَخا ـَ سَخْوًا و سَخْيًا النارَ: راکھ نکال کر آگ جلانا۔ ــــ القِدرَ: ہانڈی کے نیچے آگ جلانا۔ مَسْخَى النارِ: ہانڈی کے نیچے کشادہ کی ہوئی جگہ تاکہ آگ بسہولت جل سکے۔

۳۔ سَخَا ـُ سَخْوًا و سخا ـَ سَخْوًا و سَخْيًا الرجلُ: سکون اختیار کرنا۔

۴۔ السَّخَاءَةُ جمع سَخَاء (ن): ایک قسم کی سبزی۔

○ سَخَا ـُ سَخِيَ ـَ سَخَاءً و سَخُوَ ـُ سخاوَةً: سخی، فیاض، فراخ دل، روادار، بے تعصب، غیر قدامت پسند، آزاد خیال، حریت پسند ہونا، کریم النفس، بافیض ہونا۔ (علی) کی جانب (ب) کے ساتھ۔ (علی) کو عطا کرنا۔ انعام دینا (ب) کچھ۔ مرحمت کرنا، دینا (ب) کچھ، علی (کو)۔ سَخَاء: فیاضی، سخاوت، رواداری، بے تعصبی، کریم النفسی۔ سَخِي جمع اَسْخِياء: فیاض، سخی، فراخ دل، کریم النفس، فراخ دلی سے (ب) کچھ دینے والا، دل کھول کر (ب) کچھ صرف کرنے والا، (ب) کا بے اندازہ خرچ کرنے والا یا عطا کرنے والا۔ سخية اموال: کافی، بہت فنڈ یا مالی وسائل۔ سخي النفس عن الشيء: کوئی شے چھوڑنے یا ترک کرنے پر بے حد مسرور یا خوش و خرم۔

سدّ: ا۔ سَدَّ ـُ سَدًّا الاناءَ: برتن کو بند کرنا ــــ الثلمةَ: سوراخ یا رخنہ بھرنا اور درست کرنا ــــ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ اِنْسَدَّ اِنْسِدَادًا و اسْتَدَّ اِسْتِدادًا: بند ہونا۔ السُّدّ جمع أَسْدَاد: دو چیزوں کے درمیان روک یا آڑ۔ پہاڑ کہتے ہیں۔ ضربت عليه الارض بالاسداد: اس پر تمام راستے بند ہو گئے اور تمام طریقے دھندلا گئے۔ ــــ جمع سُدُود: افق پر چھا جانے والا سیاہ بادل۔ جرادٌ سُدٌّ: افق کو ڈھک لینے ڈالا، ٹڈیوں کا دل ــــ جمع۔ سِدَدَةٌ: پتھروں اور چٹانوں والی وادی جس میں پانی بہت عرصہ ٹھہرے، وادی، سایہ۔ السُّدَّة جمع سُدَد: گھر کا دروازہ، برآمدہ۔ السَّدّ جمع أَسْداد: دو چیزوں کے مابین رکاوٹ، پہاڑ۔ ــــ الدُّحروج (ا ع): ہیڈ ورکس ــــ جمع اَسِدَّة: عیب جیسے اندھاپن۔ السِّداد: ڈھکن، وہ چیز جس سے بند کیا جا سکے۔ تھن میں جما ہوا دودھ جو دودھ کی نالی کو بند کر دیتا ہے۔ السِّدادة: ڈھکن، کارک۔ السُّدَاد (طب): ناک کی بیماری جس سے ہوا لینی دشوار ہو۔ عينٌ سادةٌ جمع سُدُد: کمزور نظر کی آنکھ۔ اَلْمَسَدّ: بند کرنے کی جگہ۔ سَدَّ مَسَدَّهُ: کا قائم مقام ہونا۔

۲۔ سَدَّ ـِ سَدَدًا و سَدَادًا: درست ہونا۔ هو يسِدّ في قوله: وہ صحیح بات کہتا ہے۔ وقلتُ لهٗ سَدَادًا من القول و سَدَدًا: میں نے اس سے ٹھیک اور سیدھی بات کہی۔ ــــ الشيْ: کا سیدھا ہونا۔ سَدَّدَ الرمحَ: نیزہ کو سیدھا کرنا۔ ــــ هُ: کو راہ راست کی طرف ہدایت کرنا۔ اَسَدَّ الشَيءُ: کا سیدھا ہونا۔ ــــ الرجلُ: صحیح ہونا یا درستی کا طالب ہونا۔ تَسَدَّد: سیدھا ہونا ــــ الشيءُ: کا سیدھا ہونا۔ اِسْتَدَّ الشيءُ: کا سیدھا ہونا۔ كلامٌ سِدٌّ: درست بات۔ السَدَد (مص): درست، راست، استقامت۔ رجلٌ سَدَّاد: سیدھا آدمی۔ السُّدَّة جمع سُدَد: صحیح، درست، بیٹھنے کی جگہ، منبر، رتبہ، منصب کہتے ہیں۔ جلس فلانٌ في سُدَّةِ الوزارة: وہ وزارت کے منصب پر فائز ہوا۔ الأَسَدّ جمع سُدٌّ و السَدِيد: ٹھیک درست حق کا طالب۔

○ سَدَّ ـُ سَدًّا ه: کو بند کرنا، روکنا، کا راستہ روکنا، میں رکاوٹ ڈالنا، کی راہ میں روڑا اٹکانا، (راستہ) بند کرنا، کی ناکہ بندی کرنا، کو ڈاٹ لگانا کاگ لگانا، کی ڈاٹ لگانا ــــ علی: کو روکنا (ه) سے ــــ ه: (کچھ، خصوصاً اخراجات قرضہ) ادا کرنا، چکانا، رقم کا کافی ہونا کے لئے)۔ ه: پورا کرنا، کیلئے کافی ہونا، کی رقم ادا کرنا۔ سد ثُغْرَةً: شگاف دراز یا خلا، پُر کرنا، رخنہ یا شگاف بند کرنا ــــ ثُلْمَةً: رخنہ شگاف پر کرنا۔ سد خَلَّةً: خامی، کمزوری کا چارہ کرنا، علاج کرنا۔ سدّ حاجَتَهُ: کی ضرورت پوری کرنا۔ سد رمَقَهُ: کو زندہ رکھنا، مشکل سے روزی کمانا، بھوک مٹانا۔ سدَّ مَسَدَّهُ: کی جگہ پُر کرنا، کی جگہ لینا، کے بدلہ میں دینا۔ سد مطامِعَهُ: کے مطالبے پورے کرنا۔ سدّ فَرَاغًا: رخنہ، شگاف پر کرنا۔ سدَّ النواقِص: نقائص، کوتاہیاں، کمیاں دور کرنا، یا ان کا چارہ کرنا۔ سدَّ ـُ سُدُودا و سَدادًا: صحیح ہونا، اچھی حالت میں ہونا، صحیح بات کہنا، صحیح کام کرنا، موزوں ہونا، مناسب ہونا، برمحل ہونا، غور طلب بات ہونا۔ سدّد ه: کو روکنا۔ ه: ادا کرنا، چکانا۔ سدَّدَهُ نحو: کی کی طرف رہنمائی کرنا۔ کو کا سیدھا راستہ دکھانا۔ سدَّد ه اِلي: کی راہ دکھانا، کا رخ کسی طرف کرنا، کا نشانہ کرنا۔ سدَّدَ الي: کا نشانہ باندھنا، کی تمنا کرنا، کی آرزو کرنا۔ دیکھنا، نقطہ ماسکہ پر لانا۔ سدّد دَيْنًا: قرضہ ادا کرنا، چکانا۔ سدّد عَجْزًا: خسارہ، ٹوٹا کمی، گھاٹا پورا کرنا۔ سدّد خُطاهُ: کے قدموں کو سیدھے راستہ پر چلانا۔ اسدّ: صحیح بات کہنا، صحیح کام کرنا، مناسب ہونا۔ تَسَدَّد الي: کی طرف رہنمائی ہونا۔ کی طرف رہبری ہونا، کی طرف راستہ پانا۔ انسدّ: بند ہونا، رک جانا۔ سَدّ و سُدّ جمع سدود و اَسْداد: رکاوٹ، روک، ناکہ، جنگلہ کٹہرا، قلعہ کا پشتہ، کنارہ، ٹیلا، بند، ڈیم، دریا کا ڈیم۔ سدّ المناطید: طیارہ روک غبارہ یا طیارہ روک غباروں کی باڑ۔ حارة السدّ: بند گلی۔ سُدّہ جمع سُدد: پھاٹک، دروازہ، چوکھٹ، دہلیز، سرین، بستر کوچ، دیوان۔ تحت السَّدَاد: حل طلب، واجب الاداء، بلا ادائیگی۔ بِسَدادٍ: مناسب طریقہ سے موزوں طور پر۔ سداد الرای: سلیم طبعی۔ سِدَاد جمع اَسِدة: پلگ، سٹوپر، کارک۔ سِدَاد التوصيل (برقیات): پلگ۔ سِدَادة: پلگ، سٹوپر، کارک، مکھی (Sight) سَدِيد: نشانہ پر مناسب موزوں برمحل متعلقہ، سے متعلق، صحیح، درست۔ اسد: زیادہ موزوں، زیادہ متعلقہ۔ تسديد: ادائیگی، دیوالہ نکالنا، دیوالہ۔ تحت التسديد: واجب الاداء، حل طلب، ابھی تک ادا نہ ہوئی رقم۔ ساد: رکاوٹ بننے یا ڈالنے والا۔ مسدود: بند۔

سدج: سَدَجَ ـُ سَدْجًا بالشيْ: کا گمان کرنا۔ تَسَدَّجَ: جھوٹ بولنا، جھوٹی باتیں بنانا۔ سَدَّاج: جھوٹ بولنے والا، جھوٹی باتیں بنانے والا۔ اِنْسَدَجَ: منہ کے بل گرنا، اوندھا گرنا۔

سدح: ا۔ سَدَحَ ـَ سَدْحًا هُ: کو ذبح کر کے زمین پر لٹانا، کو پچھاڑنا ــــ الناقَةَ: اونٹنی کو بٹھانا ــــ و سَدَّحَ هُ: کو قتل کرنا۔ اِنْسَدَحَ: ٹانگیں کشادہ کر کے چت لیٹنا۔ السَادِحة: گھٹاٹوپ بادل۔ السَدِيح و المَسْدُوح: چت لیٹا ہوا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ سَدَحَ ۔ سَدْحًا القِرْبَةَ: مشک بھرنا۔
۳۔ سَدَحَ ۔ سَدْحًا بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ السَّادِحُ (فا) م سادِحة: آسودہ حال، مال دار۔
سدخ: اِنْسَدَخ: پھیلنا۔
سدر: ۱۔ سَدَرَ ۔ سَدْرًا و سُدُورًا الشعرَ: بالوں کو لٹکانا ۔۔ الثوبَ: کپڑا اپھاڑنا، لمبائی میں لٹکانا ۔۔ الرجلُ في البلاد: ملک میں ایسا جانا کہ پھر نہ لوٹنا۔ اِنْسَدَرَ الشعرُ: بالوں کا لٹکنا، (کہتے ہیں: اِنْسَدَرَ يركض وہ کسی قدر تیز دوڑا)۔ برابر ڈھلوں سے نیچے اترنا۔ تَسَدَّرَ بثوبه: کپڑا اوڑھنا۔ السِدر جمع سُدُور (ن): بیری۔ السِدْرة جمع سِدْرات و سِدِرات و سِدَرات و سِدَر (ن): بیری کا درخت۔ سِدْرَة المنتهى: عرش الٰہی کی داہنی جانب بیری کا درخت۔ السَّدِر: سمندر۔ السِّدَار: خیمہ کے عرض میں لگایا جانے والا باریک سا پردہ۔ السَدَّار: بیری کے پتے بیچنے والا۔ السَّدِير: گھاس، حیرہ کے اطراف میں ایک دریا کا نام۔ السِّيْدارة: اوڑھنی، گروہ، ممکن ہے فارسی لفظ ستارہ کا معرب ہو۔
۲۔ سَدِرَ ۔ سَدَرًا و سَدَارَةً: حیران ہونا، لاپرواہ ہونا و۔ البعيرُ: اونٹ کا گرمی کی شدت سے چندھیا جانا۔ سادِر: گرمی کی شدت سے چندھیا جانے والا اونٹ۔ السَّادِر: کہتے ہیں۔ تكلَّمَ سادرا: بے احتیاطی سے گفتگو کرنا۔ السَّدِر: حیران۔
۳۔ ناقة سَدِرة: بوڑھی اونٹنی۔ السَّدِير: یمن میں ایک جگہ کا نام۔ سَدِير النخل: نخلستان۔ الأسدران (ع ا): آنکھ کی دو رگیں، دونوں شانے کہتے ہیں۔ جاء يضرب أسْدَرَيه: وہ بے نیل و مرام خالی ہاتھ آیا۔
○ سَدِرَ ۔ سَدَرًا و سَدَارَةً: (آنکھ) کا چندھیا جانا، خیرہ ہو جانا، گھبرا جانا، گڑبڑا جانا، پریشان ہونا، حیران ہو جانا، الجھاؤ میں پڑ جانا، حواس باختہ ہونا، چونک جانا، سراسیمہ ہو جانا، بہک جانا، دھوکا کھا جانا۔ بلغ سِدرة المنتهى: بلند ترین مقصد حاصل کر لینا، بنیادی نتائج حاصل کرنا۔ سِدارة جمع سَدائِر: عراق میں مستعمل سیاہ مخمل سر کا لباس، پردیس کی ٹوپی۔ سادِر في: (میں) غیر محتاط۔
سدس: ۱۔ سَدَسَ ۔ سَدْسًا القومَ: کا چھٹا ہونا کے مال کا چھٹا حصہ لینا۔ سَدَّسَ الشيءَ: کو شش پہلو بنانا۔ أسْدَسَ القومُ: چھ ہونا، کے اونٹوں کا چھٹے روز گھاٹ پر آنا ۔۔ البعيرُ: اونٹ کا سامنے کے چار دانتوں اور کچلیوں کے درمیان والے دانت کے بعد دانت گرانا۔ السِّدْس: اونٹوں کی چھٹے روز پانی پینے کی باری۔

(ست کی اصل سِدس ہے) السُّدْس و السُّدُس جمع أسداس: چھٹا حصہ، ایک بٹہ چھ، کہتے ہیں۔ هو يضرب اخماسا لاسداس: وہ مکر و فریب کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ السَّدَس جمع سُدْس و سُدُس: آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ۔ السَّادِس (فا) م سَادِسَة: چھٹا۔ السُّدَاسِيّ: چھ سے مرکب یا چھ چیزوں والا، چھ ضلعوں والی چیز۔ چھ حروف پر مشتمل لفظ جیسے زنجبیل۔ سُداس کہتے ہیں۔ جاءوا سُداس: وہ چھ چھ کر کے آئے۔ السَّدِيس جمع سُدُس: چھٹا حصہ۔ ایک بٹہ چھ، چھ کا مرکب، یا چھ چیزوں والا۔ آٹھویں سال کا اونٹ، چھ سال کی بکری۔ المُسَدَّس (ھ): چھ ضلعوں والی شکل، چھ گولیوں والا ریوالور۔
۲۔ السُّدوس و السَّدُوس: سبز رنگ کی چادر۔
○ سَدَّسَ ھ: کو چھ گنا کرنا، کو چھ سے ضرب دینا، کو چھ پہلو والا بنانا۔ سُدْس و سُدُس جمع أسْداس: چھٹا حصہ ایک بٹہ چھ۔ سُداسِيّ: چھ گنا، چھ حصوں پر مشتمل۔ السادس: چھٹا۔ مُسَدَّس: چھ ضلعوں والا۔ جمع مُسَدَّسات: ریوالور، سکس شوٹر Six shooter مُسدس إشارة: اشارہ کا پستول (Very pistol) مُسَدَّسَة: پستول، گن، ریوالور۔
سدع: سَدَعَ ۔ سَدْعًا ہُ: کو ذبح کر کے پھیلا دینا ۔۔ الشيءَ بالشيء: ایک چیز کو دوسری چیز سے ٹکرانا، ٹکر لگانا۔ سُدِعَ: رنجیدہ ہونا، اذیت دیا جانا۔ السَّدْعة: مصیبت، رنج، اذیت۔ المِسْدَع: اپنی راہ چلنے والا، رہنما گائڈ۔
سدف: ۱۔ سَدَفَ ۔ سَدْفًا القومُ: تاریکی میں آنا ۔۔ الحجابَ: پردہ لٹکانا۔ مَسْدُوف: لٹکا ہوا پردہ۔ أسْدَفَ: سونا کی بھوک یا بڑھاپے کی وجہ سے نظر کا دھندلا ہونا ۔۔ القومُ: تاریکی میں آنا ۔۔ الليلُ: رات کا تاریک ہونا۔ أسْدَف: تاریک (رات)۔ م سَدْفاء جمع سُدْف ۔۔ تِ المرأةُ القِناعَ: عورت کا برقعہ ڈالنا۔ السَّدَف جمع أسْداف و السُّدْفة: تاریکی، روشنی، (ضد)۔ السُّدْفة: تاریکی، روشنی۔ دروازہ، دروازہ کا پردہ۔ السِدافة: پردہ۔
۲۔ سَدَفَ ۔ سَدْفًا القومُ: تاریکی میں آنا۔ أسْدَفَ القومُ: تاریکی میں آنا۔ الفجرُ: صبح کا روشن ہونا ۔۔ السِّتْرَ: پردہ اٹھانا ۔۔ عن كذا: سے الگ ہونا۔ کہتے ہیں۔ أسْدِفِ البابَ: دروازہ کھولو، یا دروازے سے ہٹ جاؤ تا کہ روشنی گھر میں آسکے۔ السُّدْف جمع سُدُوف: دور سے دکھائی دینے والا وجود۔ السَّدَف جمع أسْداف: روشنی، تاریکی (ضد) السَّدْفة و السُّدْفة: روشنی، (تاریکی) ضد

۳۔ سَدَّفَ ہُ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ سَدِيف جمع سِداف و سَدائِف: کوہان کی چربی اس چربی کے ٹکڑے۔ السَدِيفة جمع سَدائِف: فربہ اونٹنی۔
○ سَدَف جمع أسْداف: تاریکی، جھٹپٹا، شام کا دھندلکا۔ سُدْفَة جمع سُداف: تاریکی، جھٹپٹا، شام کا دھندلکا، پردہ۔
سدق: السَّدَق والسَّوْدَق: سَذَق و سَوْذَق: کی بگڑی ہوئی شکل۔
سدك: سَدِكَ ۔ سَدَكًا و سَدْكًا بالامر: پر جما رہنا، قائم رہنا، ڈٹا رہنا، کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنا مخصوص کرنا۔ ایسا شخص سَدِك به کہلاتا ہے، کہتے ہیں: هو سَدِك بالرُّمح: وہ ایک اچھا نیزہ باز ہے۔
سدل: سَدَلَ ۔ سَدْلًا الشعرَ او الثوبَ: بالوں یا کپڑے کو چھوڑنا، لٹکانا۔ تَسَدَّلَ وانْسَدَلَ: لٹکنا ۔۔ الثوبَ: کپڑا اپھاڑنا ۔۔ في البلاد: ملک میں جانا۔ سَدِلَ ۔ سَدَلًا: مائل ہونا۔ سَدَّلَ الشعرَ او الثوبَ: بالوں یا کپڑے کو چھوڑنا یا لٹکانا۔ سَوْدَلَ الرجلُ: لمبی مونچھیں رکھنا۔ السِّدْل جمع أسْدال: سینہ تک لٹکنے والا ہار ۔۔ و السُّدْل جمع أسدال و سُدول و أسْدُل: پردہ کہتے ہیں۔ أرخى الليلُ سُدولَه: رات نے اپنی تاریکی کے پردے چھوڑ دیئے۔ السَّدَل: میلان، جھکاؤ، رجحان کہتے ہیں۔ فيه سَدَل الى جانب: وہ ایک طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ السَّدِيل جمع سُدُل و أسْدال و سَدائِل: پالکی وغیرہ کا پردہ (اع) پردہ سیمیں جس پر فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ السَّوْدَل: مونچھیں۔ شعرٌ مُسَدَّل: گھنے لمبے بال۔
○ سَدَلَ ۔ سُدُلًا ھ: کو لٹکنے یا گرنے دینا۔ ھ على: کو کچھ پر گرانا، نیچے کرنا۔ سُدِلَ: لٹکنا۔ سَدَّلَ و أسْدَلَ: بمعنی سَدَلَ۔ تَسَدَّلَ: نیچے لٹکنا، نیچے کیا جانا، نیچے ہونا۔ انسدل على: پر اترنا۔ سِدْل و سُدُل جمع سُدُول و أسْدال: پردہ (اوڑھنی برقع) پردہ Curtain
سدم: ۱۔ سَدَمَ ۔ سَدْمًا الباب: دروازہ بند کرنا۔ سَدِمَ ۔ سَدَمًا الماءُ: پانی کا بہت دنوں کا ہونے کے سبب متغیر ہونا اور کائی سے ڈھک جانا۔ سَدَّمَ الماءَ طول عهده: درازیٔ مدت کا پانی کو متغیر کرنا۔ ماءٌ سَدَم و سُدُم و سَدِم و سُدْم: کائی سے ڈھکا ہوا پانی، بہت دنوں کا ہونے کی وجہ سے متغیر پانی بصورت جمع کہیں گے۔ میاهٌ سُدُم و اسدام و سِدام۔ السديم جمع سُدُم: کہر، کہرا، دھند۔ (فلک) نیبولا (Nebula)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔سَدِمَ - سَدَمًا بالشیءِ : کو بہت چاہنا، اوراس کا حریص ہونا۔ السَّدِیمُ جمع سِدَام : بہت ذکر کرنے والا۔

۳۔سَدِمَ - سَدَمًا : ندامت کے ساتھ غمگین ہونا۔ السَّدَمُ : ندامت کے ساتھ غم، غم کے ساتھ غصہ۔ رجلٌ سَدِمٌ : غضبناک آدمی۔ السَّدْمان : پشیمان، غمگین کہتے ہیں۔ ھو سَدْمَانُ نَدْمان : وہ ندامت کے ساتھ غمگین ہے۔

○ انسدم : (چشمہ کا) خشک ہوجانا۔ سَدَمٌ : دکھ، رنج، غم، الم، ملال، اندوہ ایذا، تکلیف، مصیبت، قہر، بپتا، سخت غم۔ سدیم : کہر، دھند، نیبولا (Nebula) (فلکیات)۔ سدیمی : نیبولا کا، سحابی، مبہم، غیرواضح۔

سدن : ا۔سَدَنَ ـِ سَدْنًا و سِدَانَةً : کعبہ شریف یابت خانہ کا خادم ہونا، کی خدمت کرنا۔ کا دربان ہونا یا حاجب ہونا۔ سادِن جمع سَدَنَة : کعبہ یابت خانہ کا خادم، دربان، حاجب۔ سِدانة الکعبة : کعبہ کی خدمت۔

۲۔سَدَنَ - سُدُونًا و سِدَانَةَ السِّتر : پردہ چھوڑنا۔ السِّدْنُ و السَّدَنُ : جمع اسدان و السَّدَن : پردہ السَّدِینُ : چربی، اون، پردہ۔

۳۔السَّدَّان : آہرن، نہائی صحیح لفظ سَنْدان ہے۔

○ سِدَانة : کسی مزار خصوصاً کعبہ شریف کے نگران یا ناظم کا عہدہ یا دفتر۔ سادِن : کعبہ شریف کا نگران یا ناظم یا دربان محافظ گرجا، محافظ، مہتمم۔ جمع سَدَنَة : مشین گن، ٹینک وغیرہ کا عملہ۔

سدا : ا۔سَدَا - سُدُوًّا بیدہ نحو لِشیءٍ : کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ ـَ ت النافةُ فی المشی : اونٹنی کا چلنے میں کھلے قدم رکھنا۔ الصبیُّ بالجوز : بچہ کا اخروٹ سے کھیلنا۔ کہتے ہیں۔ سدا سَدْوَهُ : کی پیروی کرنا۔ أَسْدَى إِسْدَاءً النحلُ : کھجور کا نرم پڑنا۔ اِسْتَدَى اِسْتِدَاءً بیدہ : ہاتھ بڑھانا۔ الصبیُّ بالجوز : بچہ کا اخروٹ سے کھیلنا۔ النوقُ السَّوَادِی : چلنے میں کھلے کھلے قدم رکھنے والی اونٹنیاں۔

۲۔اِسْتَدَى اِسْتِدَاءً الفرسُ : گھوڑے کا پسینہ والا ہونا۔

۳۔السَّادِی م سادِیة جمع سَوَادٍ : چھٹا۔ السادة : سادہ، جس پر پھول بوٹے نہ ہوں جیسے قماشٌ سادةٌ : سادہ کپڑا، جس میں آمیزش نہ ہو، جیسے ماءٌ سادہ : (فارسی لفظ) خالص پانی۔

سدی : ا۔سَدَى ـِ سَدْیًا الثوبَ : کپڑے کا تانا تننا۔ سَدَّى تَسْدِیَةً الثوبَ : کپڑے کا تانا تننا۔ أَسْدَى إِسْدَاءً الثوبَ : کپڑا کا تانا تننا۔ ـــ بینهما : کے درمیان صلح کرانا۔ تَسَدَّى تَسَدِّیًا الثوبَ : کپڑے کا تانا تننا۔ السَّدَى من الثوب جمع أَسْدِیَة : کپڑے کا تانا۔ اس کے مقابلہ میں اللحمة ہے۔ عام لوگ اسے مَدَّہ کہتے ہیں شہد۔ السَّداة جمع أَسْدِیَة (ز) : پھول میں زعضو۔ من الثوب : کپڑے کا تانا۔ کہتے ہیں۔ ماانت بلحمة ولا سَدَاةٍ : تم نہ تو ضرررساں ہو نہ نفع بخش۔ الأَسْدِیّ والأُسْدِیّ : وہ کپڑا جس کا تانا کیا گیا ہو۔ المُسْدَاة (حی) : تانا تننے کا آلہ۔

○ سَدَّى و أَسْدَى الیٰ : کو نفع دینا۔ أَسْدَى ہ : کچھ کرنا، سرانجام دینا۔ اسدی الیہ خدمةً : کی خدمت کرنا۔ اسدی الیہ الآراء شادات : کو تجاویز دینا، مشورہ دینا۔ أَسْدَى الشکر لہ : کا شکریہ ادا کرنا۔ أَسْدَى فائدة : سودمند ہونا، منفعت بخش ہونا۔ أَسْدَى الیہ (یالہ) النُّصحَ : کو مشورہ دینا۔ أَسْدَى الیہ یدا : پر مہربان کرنا، نوازش کرنا، کرم فرما ہونا۔ سَدًى جمع أَسْدِیَة : (کپڑے کا) تانا۔ مسلسل اور عام خصوصیت یا وصف۔ (کہانی یا بحث وغیرہ) کا سلسلہ یا لڑی۔ سَدَاة : تانا، مسلسل اور عام خصوصیت یا وصف، سلسلہ یا لڑی (کہانی یا بحث کی) سُدًى : فضول، بےکار، لاحاصل۔ ذھب سُدًى : فضول، بےکار، لاحاصل ہونا۔

۲۔سَدِیَ - یَسْدَى ت الارضُ او اللیلةُ : زمین کا زیادہ نمناک ہونا، رات کا بہت شبنم والی ہونا۔ صفت : سَدِیَة۔ سَدَّى الیہ : پر احسان کرنا۔ و۔ الیہ معروفاً : کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ـــ الارضَ : کو نمناک کرنا۔ أَسْدَى إِسْدَاءً الیہ : پر احسان کرنا۔ کہتے ہیں : أَلْحِمْ ما أَسْدیت : جس احسان کی تم نے ابتداء کی ہے اس کو پورا بھی کرو۔ ـــ الارضَ : کو نمناک کرنا۔ السَّدَى : تری، شبنم، بھلائی۔

۳۔سَدِیَ - یَسْدَى البُسْرُ : کھجوروں کا نرم پڑنا۔ صفت سَدٍ۔ السَّدَى والسَّدَاء : سبز کچی کھجور۔

۴۔أَسْدَى إِسْدَاءً الأمرَ : کام کو نظرانداز کرنا، یا اس کے کرنے میں غفلت برتنا۔ اِبل سُدًى و سَدًى : (واحد اور جمع کے لئے) اونٹ جس یا جن سے غفلت برتی جائے۔ کہتے ہیں۔ ذھب کلامُهُ سُدًى : اس کا کلام بےکار گیا۔

۵۔تَسَدَّى تَسَدِّیًا الشیءَ : پر سوار ہونا، چڑھنا، اوپر سے پکڑنا۔

سذب : السَّذَاب (ن) : ایک تیز بو والا پودا۔

سذج : سَذَج : دیکھئے سدج۔ الساذج : سادہ، بےنقش ونگار۔ سادہ (فارسی لفظ) کا معرب ـــ جمع سُذَّج : سادہ، خوش اخلاق، سادہ دل، سادہ لوح۔ اسم السَّذَاجة : سادگی، خوش اخلاقی، سادہ لوحی، سادہ دلی۔ عام لوگ کہتے ہیں ساذج اور سذاجة

سذق : ا۔السَّذَق : اہل فارس کی مشہور رات جسے لیلة الوقود (ایندھن کی رات) کہتے ہیں۔ السُّوذَق : دل، کنگن، بیڑی کی کڑی یا حلقہ۔ شکرا۔ (فارسی لفظ)

۲۔السُّذَانِق والسُّوذَنِیق والسُّوذَانِق (ح) : شکرا۔

○ سَر : سربراہ، چیف سردار : سپریم کمانڈر، کمانڈنگ جنرل۔ سَر عَسْکَر : جنرل (عثمانی فوج میں) سَر یاوران : ایڈجوٹنٹ جنرل۔

سر : ا۔سَرَّ - سُرُورًا و مَسَرَّةً و سُرًّا و سُرَّى و تَسِرَّةً ہ : کو خوش کرنا۔ ـُ سَرًّا فلانًا : کو پھولوں کا دستہ پیش کر کے مبارک باد دینا۔ سُرَّ سُرُورًا : خوش ہونا۔ مَسْرُور : خوش۔ سَرَّرَہ : کو خوش کرنا۔ أَسَرَّ اسرارًا ہ : کو خوش کرنا۔ تَسَارَّ : کہتے ہیں۔ تسارَّ زیدٌ الی ماتکرہ : زید اس بات سے لطف اندوز ہوا جو تمہیں ناپسند ہے۔ اِسْتَسَرَّ اِسْتِسْرارًا الرجلُ : خوش ہونا۔ السَّرّ (مص) رجلٌ بَرٌّ سَرٌّ : نیکی کر کے خوش ہونے والا آدمی۔ اسی طرح کہتے ہیں۔ قومٌ بَرُّونَ و سَرُّونَ۔ السَّرَّة : گلدستہ۔ السُّرّ : سرور، خوشی۔ اِمرأةٌ سُرَّةٌ : لوگوں کو خوش کرنے والی عورت۔ السُّرُور : خوشی، نازبو کی شاخیں۔ السَّرِیر جمع أَسِرَّة و سُرُر : تخت، وزیادہ تر استعمال تخت شاہی کے لئے ہے (کہتے ہیں۔ زال عن سریرہ : اسکی عزت اور نعمت جاتی رہی) خوابگاہ، گردن اور سر ملنے کی جگہ، نعمت، زندگی کی آسودگی۔ السِّرِّیر : وہ شخص جو اپنے بھائیوں کو خوش کرتا ہو اور ان کے ساتھ نیک سلوکی سے پیش آتا ہو۔ السَّرَّاء : خوشی، خوش حالی۔ (ضرّاء کاالٹ) کہتے ہیں ھو صدیقٌ لهم فی السَّرَّاء والضَّرَّاء : وہ فراخی اور تنگی میں ان کا دوست ہے۔ سَرَارَةُ العیش : بہتر اور افضل زندگی۔ کہتے ہیں : ھو فی سَرَارةٍ من عیشه : وہ خوب فراخی اور خوشحالی میں ہے۔ السَّارُورَاء : خوشی وخوشحالی۔ المَسَرَّة (مص) : جمع مَسَارّ : خوشی ومسرت۔ نازبو کی شاخیں۔ المَسْرُور م مَسْرُورَة : خوش وفرحان۔

۲۔سَرَّ - سَرًّا ہ : کی ناف میں نیزہ مارنا۔ الصبیَّ : بچہ کی نال کاٹنا۔ ـَ سَرًّا : کی ناف میں درد ہونا۔ سُرَّ سُرُورًا الصبیُّ : پیدائش پر بچہ کی نال کا کاٹا جانا۔ السُّرّ جمع أَسِرَّة : بچہ کی نال۔ السِّرّ : درمیان، وادی کا درمیان ـــ جمع أَسِرَّة (قِنٌّ واقِنَّة کی طرح) : ہر چیز کا جوف اور مغز۔ السَّرَر : چیز کا کھوکھلا ہونا ـــ السُّرُر : بچہ کی نال جو پیدائش پر کاٹی جاتی ہے۔ السُّرَّة جمع سُرَّات و سُرَر : پیٹ کے بیچ کی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

غذاء کادروازہ۔یعنی ناف۔(ع ا) ناف۔ سُرَّۃُ الوادی :وادی کا درمیان۔و۔ سُرَّۃ البلد : شہر کا درمیان السَرَّاء :کھوکھلی نالی۔ السَرارَۃ جمع سَرَار : وادی کا درمیان یا عمدہ حصہ۔ الأَسَرّ : بیچ سے پولا، چقماق۔

۳۔سَرَّرَہُ سُرِّیَّۃً : کی شادی لونڈی سے کرنا۔ سرّاہ بھی کہتے ہیں۔ سَارَّہُ : سے راز کی بات کرنا، کے کان میں کہنا۔ سے کانا پھوسی کرنا۔ أَسَرَّ إِسْرَارًا ہُ :کو راز سے منسوب کرنا۔۔ السِرَّ :راز چھپانا، راز افشا کرنا (ضد) ۔ الیہ بکذا: سے خفیہ بات کرنا، کو بھید بتانا۔و۔ الیہ المودَّۃ و بالمودَّۃ :تک اپنی دوستی کو پہنچانا۔ تَسَرَّرَ : لونڈی بنانا۔ تَسَرَّی :بھی کہتے ہیں جیسے تَظَنَّنَ کو تَظَنّی کہتے ہیں۔ تَسَارّ القومُ :لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا، کان پھوسی کرنا، ایک دوسرے کو بھید بتانا۔ اِسْتَسَرَّ اِسْتِسْرارًا :لونڈی بنانا۔۔ عنہ :سے چھپنا۔ ۔ القمرُ : چاند کا ایک دو راتیں چھپنا۔ ۔ الشیءَ: کے چھپانے میں مبالغہ کرنا۔ ۔الرجلَ :کو اپنے بھید سے واقف کرنا۔ السِرّ :جمع اسرار :راز، بھید (کہتے ہیں۔ صُدور الاحرار قبور الأَسرار : احرار کے سینے بھیدوں کی قبریں ہیں)۔قمری مہینہ کی پہلی، آخری یا درمیانی رات (کہتے ہیں۔ فلانٌ سِرّ ھذ الامر :فلاں شخص اس معاملہ کے راز سے آگاہ ہے) خالص چیز، چیز کا پاکیزہ ترین و بہترین حصہ، پاکیزہ عمدہ زمین، اصل، عیسائیوں کے ہاں ایک محسوس علامت یا اشارہ ہے جسے حضرت عیسیٰ نے تقدیس نفوس کے لئے متعین فرمایا۔ السِرّیّ :راز کی، راز دارانہ۔ رجلٌ سِرّیّ : خفیہ طور پر چیزیں بنانے والا۔ السَرَر :قمری مہینہ کی آخری رات۔ السَرار : خالص نسب۔ سَرارُ الوادی: وادی کے بہترین مقامات۔ ۔ الشھرِ : مہینہ کی آخری رات۔ السِرار :مہینہ کی آخرت رات۔ السَرارَۃ :خلوص کہتے ہیں۔ ھو سِرٌ بیّنٌ :وہ خالص واضح خلوص والا راز ہے۔و۔جمع۔ خالص و افضل النسب۔ سرارۃ الشیءِ :چیز کا پاکیزہ ترین اور خالص حصہ۔ سُرَّۃ الوادی :وادی کی بہترین جگہیں۔ السُرِّیَّۃ جمع سَرارِی :لونڈی جو گھر میں رہتی ہے۔ اغلب گمان ہے یہ سِرّ کے لفظ سے مشتق ہے۔ السَرِیرَۃ جمع سَرائِر : بھید، راز۔ وہ معاملہ جس کو انسان چھپاتا ہے۔ نیت کہتے ہیں۔ ھو طیّبُ السریرہ :وہ پاک دل اور کھری نیت کا آدمی ہے۔ السَّراء :کشادہ نالہ جس میں ریت اور کنکریاں ہوں۔ أرضٌ سرَّاء :عمدہ زمین۔ المَسَرَّۃ :بات کرنے کی نلکی Speaking ٹیلی فون Telephone، tube۔

۴۔تَسَرَّرَ الثوبُ : کپڑا پھٹنا۔ السُرّ جمع اَسرار و جمع الجمع اساریر :ہاتھ یا ماتھے کی لکیر۔ السِرّ جمع أسرار و جمع الجمع أساریر : (ہاتھ یا ماتھے کی لکیر جیسے اوپر) راستہ، طریقہ۔ السَرَر والسُرُوُر :ہاتھ اور ماتھے کی لکیریں۔ السِرَار جمع أسِرَّۃ: ہاتھ اور ماتھے کی لکیریں۔(عموما) لکیریں۔ الأساریر :چہرے کی سج دھج، بناوٹ۔

۵۔ سُرَّۃُ الحوض :حوض کا پیندا جہاں پانی ٹھہرتا ہے۔۔ الفرس (فلك) :ایک ستارہ۔ السریر جمع أسِرَّۃ وسُرُر :ٹیلہ پر کی ریت۔ الأَسَرُّ من الرجال : اجنبی آدمی۔ بہت موٹا۔

○ سَرَّ ۔ سُرُوراً و تَسِرَّۃً و مَسَرَّۃً ہُ :کو خوش کرنا، باغ باغ کرنا، مسرور، شاد یا محظوظ کرنا، کی دل داری کرنا، کا دل بہلانا۔ سُرَّ سُرُرًا : خوش ہونا، باغ باغ ہونا، مسرور ہونا، شاد ہونا، محظوظ ہونا۔ ۔لِ/ من/ ب: (سے، پر) خوش ہونا وغیرہ سَرَّرہ :بمعنی سَرَّہ۔ سارَّہ :کو راز کی بات کہنا یا بتانا یا راز دار بنانا۔ سارہ فی اذنہ :کے ساتھ کانا پھوسی کرنا، سے سرگوشیوں میں کہنا۔ اَسَرَّہ :بمعنی سَرَّہ: أسَرّ ہ: کو راز میں رکھنا، چھپانا، مخفی رکھنا۔ اَسَرّ ہ/ب اِلی: کو کچھ بتانا (راز کے طور پر)، کو کا راز دار بنانا، کو سرگوشی کے انداز میں کچھ بتانا، کو کچھ کان میں کہنا، کو کی کانا پھوسی کرنا۔ اَسَرَّ فی اذنہ ہ:کے کان میں کچھ سرگوشی کرنا۔ تَسَرَّی و تَسَرَّر ھا / ب:کو داشتہ بنانا۔ اِسْتَسَرّ :چھپانے کی کوشش کرنا۔ ۔ عن :سے چھپانا، چھپنا۔ ۔ ھا :کو دشتہ بنانا، گھر میں ڈال لینا۔ سِرّ جمع اسرار :راز، بھید، پوشیدہ خیال، دل، اخفا، پردہ داری، راز داری، نامعلوم شئے، سربستہ راز، کسی بات کی تہہ میں موجود وجہ یا سبب۔ سِرّاً :پوشیدہ طور پر مخفی طور پر، علیحدگی میں، الگ۔ سِراً و علانیۃً :پوشیدہ طور پر ، کھلم کھلا، علی الاعلان۔ سِرُّ اللیل :پہرے کا لفظ watch word، شناختی لفظ Pass word۔ کاتبُ السرّ :سیکرٹری کا تِمُ السر :سیکرٹری۔ کلمۃُ السِرّ :واچ ورڈ، پاس ورڈ (شناختی لفظ) فی سِرّہ :پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر، دلی طور، دل میں۔ اتعبَ سِرَّہُ :کو تکلیف دینا، زحمت دینا، پریشان کرنا، کی ناک میں دم کرنا، کو دق کرنا، ستانا، زچ کرنا۔ سِرّی : خفیہ، پوشیدہ، درپردہ، مخفی، غیر سرکاری۔ سرِیر جمع أسِرَّۃ و سُرُر و سَرائِر :پلنگ، چارپائی، کھاٹ، کھٹیا، تخت، عرش، بلند مقام۔ سَرِیرۃ جمع سَرائِر : راز بھید، پوشیدہ خیال، دل دماغ، ذہن، روح۔ صَفاءُ السریرۃ : ضمیر کی صفائی۔ طَیّبُ السریرۃ: بھولا بھالا، بے ریا، سادہ دل۔ سَرّاء :خوشی، سرور، فروغ۔ فی السرّاء والضِرّاء :اچھے برے دنوں میں۔ تسَرٍ :داشتہ بنانا۔ استسرار :داشتہ بنانا۔ سارٍّ : خوش کُن، تسکین دہ، طمانیت بخش، خوش و خرم، راحت بخش، مسرت بخش۔ مَسْرُورٌ ب :پرخوش، سے خوش۔ مُسِرّ : خوشگوار، تسکین دہ، طمانیت بخش، راحت بخش، مسرت بخش۔ مُسْتَسَرّ : چھپنے کی جگہ۔

○ سرادق جمع سرادقات : بڑا خیمہ، چتر، چتر شاہی، سائبان، شہ نشین، سراپردہ، تماشائی خانہ۔

○ سراط بمعنی صراط

○ سَرایِ :محل۔ سَرایۃ جمع سرایات : محل۔ السرایۃ الصفراءُ :پاگل خانہ۔

سرأ: سَرَأَ ۔ سَرْأً و سَرَّأً تَسْرِئَۃً ت الجرادۃُ او السمَکۃُ او الضبۃُ : ٹڈی، مچھلی یا گوہ کا انڈہ دینا۔ ۔تِ المرأۃُ: عورت کا بہت اولاد والی ہونا۔ أسْرأَت السمکۃُ : مچھلی کا انڈا دینے کے وقت کو پہنچنا یا اس کے انڈے دینے کا وقت آجانا۔ السَرْءُ و السِرْءُ و السَرْأَۃ و السِرْأۃُ :ٹڈی، مچھلی، گوہ وغیرہ کا انڈہ۔ السَرُوء جمع سُرُء و سُرّاء من السمك ونحوھا: بہت انڈے دینے والی مچھلی وغیرہ۔ ارضٌ مسروءۃٌ: بہت ٹڈیوں والی زمین۔

سرب: ا۔ سَرَبَ ۔ سُرُوباً الماءُ : پانی کا جاری ہونا، بہنا۔ ۔ سَرْباً القربۃَ :مشک سینا۔ سَرِبَ ۔سَرَبًا الاءِ ناءُ :پانی کا برتن سے بہہ جانا۔ ۔۔ الماءُ من الاناء :پانی کا برتن سے بہہ جانا۔ سُرِبَ :ناک میں چاندی کا دھواں داخل ہونے سے گھٹن محسوس کرنا۔ مَسرُوب :وہ جو ناک میں چاندی کا دھواں داخل ہونے سے گھٹن محسوس کرے۔ سَرَّبَ القربۃَ :مشک میں پانی ڈالنا۔۔ و اَسْرَبَ الماءَ من الإناء :برتن سے پانی بہا دینا۔ تَسَرَّبَ من الماء :پانی سے بھر جانا۔ اِنْسَرَبَ الماءُ من الاناء :پانی کا برتن سے بہہ جانا۔ السَرب جمع اَسْرَاب :پانی کی نالی، مشک سے بہنے والا پانی۔ السَرِب :بہتا پانی۔ مزادۃ سَرِبۃٌ :بہنے والی مشک۔ السَراب :دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں پانی کی طرح نظر آنے والی ریگستانی ریت، جس میں گھروں درختوں وغیرہ کا عکس دکھائی دیتا ہے، جھوٹ اور فریب کے لئے یہ ضرب المثل ہے: ھو أخدعُ من السراب :وہ سراب سے زیادہ فریبی اور دھوکے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بازہے۔ السَّرْبَۃ: گھونگھا، منکہ، کوڑی، نگینہ۔ مَسرب الماء: پانی بہنے کا راستہ۔ المَسْرَبَۃ و المَسْرُبَۃ جمع مَسارِب (ع ا): آنسو بہنے کی جگہ، دبر۔ المُنْسَرِب: تیز بہنے والا پانی، لمبا۔

۲۔ سَرَبَ۔ سُرُوبًا الرجلُ: کھسکتے چلے جانا۔ ۔۔ تِ الإِبل: اونٹوں کا چرنے کے لئے جانا۔ سَرَّبَ الإبلَ: اونٹوں کو ٹولی ٹولی کرکے بھیجنا۔ ۔۔ الیَّ الاشیاءَ: اس نے مجھ کو چیزیں ایک ایک کرکے دیں۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ سَرَّبَ الرجل: آدمی اپنے گھر واپس آ گیا۔ السَّرْب: مویشی، رخ، راستہ۔ کہتے ہیں۔ خَلِّ لَہٗ سَرْبَہٗ: اس کا راستہ چھوڑ اور کہتے ہیں۔ فلانٌ مُخلَّی السَّرب: فلاں پر کوئی تنگی نہیں۔ السِّرب جمع أسْراب: ہرنوں کا ریوڑ، پرندوں کی ٹولی، کھجور کے درختوں کا جھنڈ، راستہ۔ السَّرَب: کہتے ہیں: طریقٌ سَرَبٌ: بہت چلتا ہوا راستہ، بہت آمد ورفت والا راستہ۔ السُّرْبَۃ جمع سُرَب: ہرنوں گھوڑوں وغیرہ کا ریوڑ، انگور کی بیلوں کی قطار۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ، راستہ۔ سینہ سے پیٹ تک بال۔ السُّرْبَۃ: قریب کا سفر۔ السارب (فا): صاف ظاہر ۔۔ والسُّرُوب: سیدھا جانے والا۔ ظَبیۃٌ ساربۃ: اپنی چراگاہ میں جانے والی ہرنی۔ المَسْرَب جمع مَسارِب: راستہ، کہتے ہیں۔ وللوحش والنعم مساربُ و مسارح: جنگلی جانوروں اور مویشیوں کے اپنے اپنے جانے کے راستے اور چرنے کی جگہیں ہیں۔ المَسْرُبَۃ و المَسْرَبَۃ جمع مَسارِب: چراگاہ، سینہ کے وسط سے پیٹ تک کے بال۔

۳۔ سَرَّبَ الحافِرُ: زمین کو دائیں بائیں سے کھودنا۔ تَسَرَّبَ الوحشُ فی جحرہ: وحشی جانور کا اپنے سوراخ میں گھس جانا۔ ۔۔ فی البلاد: ملک میں چھپ کر داخل ہو جانا۔ جیسے آپ کہتے ہیں: تسربت الجواسیسُ: جاسوس خفیہ طور پر سرحد پار کر گئے۔ اِنْسَرَبَ: سوراخ میں داخل ہونا۔ السَّرْب: سینہ۔ السِّرب جمع أسْراب: دل۔ کہتے ہیں: فلانٌ واسعُ السِّرب: فلاں فراخ دل ہے (یا خوش حال ہے)۔ السَّرَب جمع أسْراب: وحشی جانور کا سوراخ یا بل۔ زمین کے نیچے کا گڑھا۔ المُنْسَرِبۃ: فنی اسالیب میں چوری چھپے داخل ہو جانے والا طریقہ یا فارمولا۔

۴۔ سَرْبَخَ الرجلُ: چست وچالاک ہونا، آرام سے چلنا، دوپہر کو چلنا۔ السَّرْبَخ: دور تک پھیلا ہوا بیابان جو آدمی کو بھٹکا دے۔ قفرٌ سِرماخ و مُسَرْبَخ: دور تک پھیلا ہوا بیابان جو راہ چلنے والے کو بھٹکا دے یا گم کردے۔

۵۔ سَرْبَلَہٗ: کو قمیص پہنانا۔ تَسَرْبَلَ بالسربال: قمیص پہننا، عام لوگ کہتے ہیں: تَسَرْبَلَ الرجلُ: آدمی اپنے معاملہ میں گھبرا گیا اور اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، کی سٹی گم ہو گئی۔ السِّرْبال جمع سَرابیل: قمیص یا ہروہ، چیز جو لباس کے طور پر پہنی جائے۔

○ سَرِبَ۔ سَرَبًا: بہنا، رسنا، لیک کرنا۔ سَرَّبَ ہ / ہ اِلی: لوگوں یا چیزوں کو ٹولیوں یا جتھوں میں، یا دستہ دستہ، کی طرف بھیجنا۔ تَسَرَّبَ: بہنا، رسنا، بچ نکلنا، باہر نکل آنا، بچ نکلنا، کھسک جانا، سرک جانا، چلتے چلے جانا۔ ۔۔ و اِلی: کے آر پار ہو جانا، میں سرایت کرنا، میں نکل جانا، میں رینگ جانا، میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتے ہوئے پہنچ جانا، میں کھسک جانا، میں چپکے سے چلے جانا، میں چپ چاپ گھس جانا، میں رس کر پہنچ جانا (رپورٹ وغیرہ؛) کا لیک آوٹ ہو کر کے پاس پہنچ جانا ۔۔: کے ساتھ ساتھ رینگنا، کے ساتھ ساتھ بہنا، پھسلنا، ۔۔: (خبر کا) پھیل جانا، گردش کرنا، مشہور ہونا۔ اِنْسَرَبَ: (جانور کا) اپنے بھٹ میں چھپ جانا۔ یا آہستہ آہستہ چل کر اپنے بھٹ میں چلے جانا۔ سِرب جمع أسراب: گلہ، ریوڑ، جھنڈ، جھرمٹ، جھول، ہجوم، بھیڑ (سواروں، جنگی جہازوں کا) دستہ، (فوجی طیاروں کا) پرہ۔ گروپ، ونگ۔ فارمیشن۔ فلائٹ (طیاروں کی) دل، ذہن، نفس، شعور۔ سِرب مِن النحل: شہد کی مکھیوں کا جھنڈیا فوج۔ ہادئ السِّرب: پرسکون، پرسکوت، چپ چاپ ساکن۔ سَرَب جمع أسراب: بھٹ، بل، سوراخ، ماند، زیرزمین راستہ، سرنگ، بڑی نالی۔ سُرْبَۃ جمع سُرَب: بمعنی سرب۔ سُراب: سَراب، بھوت، وہم وہم کی پیداوار، واہمی صورت، گندے نالے کا پانی، بدرو کا پانی (Sewage)۔ مَسْرَب جمع مَسارب: راستہ، راہ، طریق، دریائی گزرگاہ، نالی، بدرو۔ سارب: واضح، بین، جاذب توجہ، جاذب نظر، مرئی، جو دیکھا جا سکے۔ سارِبَۃ جمع سوارب: رینگنے والا جانور۔ Reptile۔ سربل ہ: کو سربال پہنانا۔ ہ ب: کو سے ملبوس کرنا۔ ہ ب: کو سے ڈھکنا، کو میں لپیٹنا۔ تَسَرْبَل: سربال پہننا۔ ہ: پہننا (کوئی لباس)۔ (ب) میں ملبوس ہونا (مجازاً کنایۃً بھی)۔ سِربال جمع سَرابیل: قمیص، لباس، coat of mail ۔۔ بالشباب: [illegible]

سرت: السِرتیفیکا: دیکھئے الشھادۃ الابتدائیۃ:

سرج: ۱۔ سَرَجَ۔ سُرُوجًا: جھوٹ بولنا۔ سَرِجَ۔ سَرَجًا: جھوٹ بولنا۔ سَرَّجَ الحدیثَ: بات گھڑ لینا۔ کہتے ہیں۔ سَرَّجَ علیَّ أُسْرُوجَۃً و انہ لیسرّج الاحادیث تسریجا: اس نے میرے خلاف ایک جھوٹ گھڑ لیا۔ وہ جھوٹی باتیں گھڑتا ہے۔ تَسَرَّجَ علیہ: کے متعلق جھوٹا گمان کرنا۔ السَّرّاج: جھوٹا۔ الأُسْرُوجۃ: جھوٹ۔

۲۔ سَرَجَ۔ سَرَجاتِ المرأۃُ شَعْرَھا: عورت کا اپنے بالوں کو گوندھنا بالوں کی چوٹی بنانا۔ سَرِجَ۔ سَرَجًا: حسین چہرے والا ہونا۔ سَرَّجَ الشیءَ: چیز کو خوبصورت بنانا۔ کہتے ہیں۔ سَرَّجَ اللّٰہُ امرکَ: اللہ تمہارا معاملہ بہتر کرے۔ ۔۔ ہُ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کو توفیق دینا۔ ۔۔ الشعرَ: بال گوندھنا، بالوں کی چوٹی بنانا۔ عوام کہتے ہیں۔ سَرَّجَ الثوبَ: اس نے سلائی کے دور دور ٹانکے لگائے۔ صحیح لفظ شَرَّجَ ہے۔

۳۔ أَسْرَجَ الفرسَ: گھوڑے پر زین کسنا۔ السَّرْج جمع سُرُوج: زین۔ مالَ سرجُك: معاملہ بگڑنے اور رائے کی کمزوری کے بارے میں ضرب المثل ہے۔ السَّرّاج: زین بنانے والا، زین ساز۔ السِّراجۃ: زین بنانے کا پیشہ۔

۴۔ أَسْرَجَ السِّراجَ: چراغ روشن کرنا۔ السِّراج جمع سُرُج: چراغ۔ سراجُ اللیل: جگنو۔ السِّیْرَج: تلوں کا تیل۔ اسے الشیرج بھی کہا جاتا ہے۔ المَسْرَجَۃ جمع مَسارِج: چراغ دان۔ المِسْرَجۃ جمع مَسارج: چراغ۔ السُّرَیجیّات: سُرَیج نامی ماہر تلوار ساز سے منسوب تلواریں۔

۵۔ السِّرْجِن و السِّرْجِین و السِّرْجُون: گوبر (فارسی لفظ)

○ سَرَّجَ ہ: بال گوندھنا، بالوں کی چوٹی بنانا۔ ہ کا کچا بخیہ کرنا، کے لمبے لمبے ٹانکیں لگانا، ٹنگندے لگانا، کو نسلک کرنا۔ ہ (جانور) پر زین ڈالنا۔ سَرج جمع سُرُوج: زین، کاٹھی۔ سِراج جمع سُرُج: لیمپ، روشنی۔ سراج الحرکۃ: ٹریفک لائٹ۔ سراج اللیل: جگنو۔ کرمک شب تاب۔ سَرّاج و سُرُوجی: زین ساز۔ سروجیۃ: زین سازی، زین سازی کا پیشہ۔ أُسْرُوجَۃ: جھوٹ، دروغ، کذب۔ مِسْرَجَۃ و مَسْرَجَۃ جمع مَسارج: لیمپ، دیا، چراغ، بتی، لیمپ سٹینڈ، چراغ دان۔

سرح: ۱۔ سَرَحَ۔ سَرْحًا و سُرُوحًا و سُرُوحاتِ المواشی: مویشی کا چرنے کے لئے جانا۔ سرح السیلُ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مویشی کو چرنے کے لئے بھیجنا۔ ۔ ہٗ : کو بھیجنا۔ ۔ ما فی صدرہ :دل کی بات بتانا۔ سَرِحَ ۔ سَرَحًا الرجلُ :اپنے معاملات کے لئے نکلنا۔ سَرَّحَ المواشیَ :مویشی کو چرنے کے لئے بھیجنا۔ ۔ القومَ : کو بھیجنا یا آزاد کر دینا۔ الزَوْجَة : بیوی کو طلاق دینا۔ اسم : سَرَاح ۔ الیه رسولا : کے پاس پیغامبر بھیجنا۔ ۔ اللّٰهُ فلانًا للخیر :اللہ تعالیٰ کا کو بھلائی اور نیکی کی توفیق دینا۔ ۔ الشَعَرَ : بالوں میں کنگھی کرنا۔ الامرَ : کام کو آسان کرنا۔ عنهُ: کو کھول دینا۔ اِنْسَرَحت الدابةُ: جانور کا نرم اور تیز چلنا۔ الرجلُ: آدمی کا ٹانگیں کھول کر چت لیٹنا، کپڑے سے نکل کر ننگا ہونا۔ تَسَرَّح من المکان: کسی جگہ سے نکلنا۔ ۔ عنهَ : کا کھولا جانا۔ ۔ الکتّانُ : کتان کے اجزاء کا جدا جدا ہونا۔ السَرْح (مص) جمع سُرُوح: واحد سَرْحَة :مویشی، گھر کا صحن، ہر لمبا درخت یا ہر وہ درخت جس میں کانٹے نہ ہوں۔ خیلٌ سُرُحٌ و نَاقةٌ سُرُحٌ: تیز و نرم رفتار گھوڑا یا اونٹنی۔ مشیةٌ سُرُحٌ :نرم رفتار۔ عطاءٌ سُرُح :بلا ٹال مٹول فوری بخشش۔ السَارِح (فا) م سَارِحَة :اونٹ چرانے والا چرواہا۔ مویشی کہتے ہیں۔ ماله سارحةٌ و لارائحة :اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ السَرَاح :تسریح کا اسم کہتے ہیں۔ اَفْعَلُهُ فی سَرَاحٍ و رَوَاحٍ :میں اسے بسہولت کر لیتا ہوں۔ السَرِیح من الامور :سہل، آسان، جلدی کیا ہوا، جلدی (کام)۔ من الخیل :ننگی پیٹھ کا گھوڑا۔ السریحة ج سَرائِح :تسمہ جس سے جوتا وغیرہ سیا جائے، کپڑے کا ٹکڑا، تنگ راستہ۔ المِسْرَح جمع مَسَارِح والمِسْرَحة : کنگھا، جس سے بالوں میں کنگھی کی جائے، یا کتان وغیرہ میں کنگھی کی جائے۔ المَسْرَح ج مَسارِح :چراگاہ، تھیٹر، سٹیج۔ مَسْرَحِیَّة: سٹیج پلے، تمثیل، ڈرامہ۔ المُنْسَرِح :شعری بحروں میں سے ایک بحر جس کا مستعمل وزن مستفعِلُنْ فاعلاتُ مُفتَعِلُنْ ہے۔ ۔ السِرْیاح من الخیل : تیز رفتار گھوڑا۔ رجلٌ سِرْیاح :دراز قد آدمی۔

۲۔ السُرحة (ح) : جوان گدھی جو ابھی گیا بھن نہ ہوئی ہو۔ السِرحَان جمع سِرَاح و سَرَاح و سَرَاحِین (ح): بھیڑیا، شیر، حوض کا درمیان۔ ذَنَبُ السِرحان: صبح کاذب۔ السِرحانه (ح): سرحان کا مونث۔

۳۔ السُرْحُوب : جمع : سَرَاحِیب (ح): گیدڑ، متناسب الاعضاء لمبا آدمی۔

۴۔ السِرْحال (ح) : بھیڑیا۔

○ سَرَح ۔ سُرُوحًا : جانا، چھوڑنا، ترک کرنا، آزادی سے گشت کرنا، جو پانے کا آزادی سے چرنا، ذہن کا سراسیمہ ہونا۔

سَرِحَ : آزادی، مرضی سے، بغیر پابندی جانا۔ سَرِحَ مَرِحَ :من مانی کرنا۔ سَرَّحَ ہٗ: مویشی کو چراگاہ میں چرنے کے لئے بھیجنا۔ ۔ ہ :کو بھیجنا، کو جانے دینا۔ ۔ ھا: (بیوی) کو طلاق دیکر چھوڑ دینا۔ ۔ ہٗ: کو چھٹی دینا، کو برخاست کرنا، کو عہدہ سے علیحدہ کرنا، سبکدوش کرنا، آزاد کرنا، رہا کرنا۔ ہ: (آنکھیں) بھٹکنے دینا، ۔ ہ: (فوج) کو سبکدوش کرنا، خدمت سے سبکدوش کرنا، منتشر کرنا۔ ۔ عن : کی پریشانیاں دور کرنا۔ ۔ غمومه : کی پریشانیاں دور کرنا۔ ۔ ہ: (بالوں) میں کنگھا کرنا۔ ۔ شعرہَ: بالوں میں کنگھا کرنا، بال بنانا۔ ۔ نظرهُ الی : کی طرف دیکھنا۔ اِنْسَرَحَ یُفکِّرُ : گہرے خیال میں گم ہونا، خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل ہونا، پراگندہ، دماغ ہونا۔ سَرَاح :عورت کو طلاق کے بعد آزاد کرنا۔ اَطلَق سراحَهُ: کو رہا کرنا، آزاد کرنا۔ اِطلاقُ سَرَاحِهِ : کی رہائی، آزادی۔ مُطلَقُ السراح :آزاد، قید سے رہا۔ سَرِیح اور بائع سَرِیح: پھیری والا، ہاکر (Pedler, hawker) مَسْرَح جمع مَسَارِح : چراگاہ، سٹیج، تھیٹر۔ سین۔ مَسْرَحُ التمثیل : تھیٹر۔ مِسْرَحِی: ڈرامیٹک، تھیٹریکل ڈرامے یا تھیٹر کا، سٹیج کا مَسْرَحیه جمع مسرحیات : سٹیج پلے، ڈرامہ، تمثیل، تَسْرِیح: برخاستگی، سبکدوشی، خدمات سے سبکدوشی، جمع تَسَارِیح: اجازت، اختیار۔ تَسْرِیحَة جمع تسریحات: بال بنانا (Hair-do) سارِح الفکر :سراسیمہ، بٹے ہوئے خیال والا، خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل، پراگندہ دماغ۔ مُنسَرِح الفکر: ایضاً۔

○ سَارُوخ جمع سَوَارِیخ: راکٹ (Rocket)

سرد: ا۔ سَرَدَ ۔ سَرْدًا و سِرَادًا الدرعَ :زرہ بننا۔ الجلدَ: چمڑا سینا۔ ۔ الشیَ : میں سوراخ کرنا، کو چھیدنا۔ سَرَّد و اَسْرَدَ الادیمَ ونحوَهُ : چمڑا سینا۔ تَسَرَّد الدرُ: موتیوں کا ترتیب سے پرویا جانا کہتے ہیں۔ تسرّد دمعُهُ کما تسرّد اللولو: موتیوں کی طرح آنسوؤں کی لڑی بندھ گئی۔ السَرْد (مص) : زرہ، زرہ کی کڑیاں۔ نجومٌ سَرْدٌ : ساتھ ساتھ ایک قطار کے ستارے۔ السرَّاد: زرہ ساز۔ السِراد و السَرِید : ستال، سراخ یا چھید کرنے کا آلہ، پیچ۔ المِسْرَد بمعنی السِراد : زبان، دہری سلائی کا جوتا، چھلنی (چوڑے سراخوں والی) (عام زبان میں)۔ المَسْرُود والمُسَرَّد والمَسْرُودة : زرہ۔

۲۔ سَرَدَ ۔ سَرْدًا و سِرادًا الحدیثَ او القراءة :اچھی طرح بیان کرنا یا پڑھنا، اچھی طرح رواں کرنا۔ ۔ الصومَ: لگاتار روزے رکھنا۔ ۔ الکتابَ: کتاب کو تیزی سے پڑھنا۔ وسَرِدَ ۔ سَرَدًا: مسلسل روزے رکھنا۔ السَرَد (مص): لگاتار ہونا۔

۳۔ سَرَّدَ و اَسْرَدَ النخلُ :درخت خرما کا پانی نہ ملنے سے مرجھا جانا۔ السَرَاد :پانی نہ دیئے جانے سے پھل کی پژمردگی۔

۴۔ السِرْداب جمع سَرَادِیب :تہ خانہ، سرنگ (ع) ایئر ریڈ شیلٹر، ہوائی حملوں سے بچاؤ کی پناہ گاہ۔ (قبو الوقایة من الغارات الجویة)

○ سَرَدَ ۔ سَرْدًا ہ: (کچھ) کو چھیدنا، چیرنا، میں چھید ڈالنا۔ ہ: کو جاری رکھنا (مثلاً گفتگو جاری رکھنا)۔ ہ: (حقائق واقعات) کو ایک ایک کر کے گننا، شمار کرنا، کا ایک ایک کر کے نام لینا۔ ہ: کو پیش کرنا، سے اقتباس پیش کرنا یا کا حوالہ دینا، کی تفصیل بیان کرنا، کو مفصل بیان کرنا یا پوری طرح سے بیان کرنا، کی تفصیلات دینا، کو معقول طور پر پیش کرنا۔ سرَّد ہ: کو چھیدنا، میں چھید کرنا، سراخ کرنا، کو چیرنا۔ سرد: گنتی، شمار، نام پڑھنا، یا لینا، ذکر کرنا، حوالہ دینا معقول اور مفصل پیش کش، سرگذشت، کہانی وغیرہ کی تفصیل، پیشکش، کا ترجمہ، مدلل، منطقی۔ مَسْرَد: (کسی کتاب کا) اشاریہ سَرِیلة المولد: نبی کریمؐ کی ولادت کا یوم منانے کے دوران کیا جانے والا خطبہ یا پیش کیا جانے والا مقالہ جو میلاد النبیؐ سے متعلق ہو۔ سِرداب : تہ خانہ، زیر زمین چیزیں سٹور کرنے کا کمرہ، بیسمنٹ، بیسمنٹ فلیٹ۔ سِردار : سپریم کمانڈر۔ کمانڈنگ جنرل (پہلے زمانہ میں مصر میں)۔

۵۔ سَرْدَجَ ہٗ: کو نظر انداز کرنا۔

۶۔ السرداح جمع سَرَادِح و سَرَادِیح :(واحد سرداحة) : کیلے کے درختوں کا جھنڈ۔ ارضٌ سِرْداح : ہموار زمین، دور کی زمین۔ و السِرْداحة جمع سَرَادِح و سَرَادِیح (ح): لمبی مضبوط اونٹنی۔

۷۔ سَرْدَقَ البیتَ :میں پردہ لگانا، شامیانہ لگانا، خیمہ لگانا۔ السُرَادِق جمع سُرادقات: شامیانہ، خیمہ، اوپر چھایا ہوا غبار یا دھواں۔

۸۔ السَرْدِین (ح) : سارڈین (چھوٹی مچھلیاں) واحد سردینة

سرس: ا۔ سَرِسَ ۔ سَرَسًا : بدخلق ہونا، بے عقلی کے بعد عقل مند ہونا، جہالت کے بعد دانا ہونا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

السَّرِیس: دانا، مقبوضہ چیز کی حفاظت کرنے والا۔

۲۔سَرَّ سَرَّ الشفرۃَ :دھار تیز کرنا۔ السُّرسُور: گریبان، خالص ساتھی (کہتے ہیں۔ ھو سُرسورُ مال: وہ مال کا بہت اچھا منتظم ہے اور اس کے مصالح سے خوب واقف ہے۔) زیرک، سمجھ دار۔

۳۔السِرسَام: دماغ کی ایک بیماری (فارسی لفظ)

سرط: ا۔ سَرَطَ ۔ُ و سَرِطَ ۔َ سَرَطًا و سَرَطَانًا و تَسَرَّطَ و اِستَرَطَ الشیءَ :کونگلنا۔ اِنسَرَطَ الشرابُ فی حلقه :حلق میں آسانی سے اتر جانا۔ السِراط :صاف کھلا راستہ۔ ستراتا کا معرب ہے، جو لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی فرش بندھی یا ٹائل لگی سڑک ہے۔ السُّراط من السیوف :تیز کاٹنے والی تلوار، کاٹ دار تلوار۔ السُّراطِیُّ: کاٹ دار تلوار، شمشیر بران، جلد نگل جانے والا، بہت کھانے والا۔ السُّرَط :تیز چلنے والا۔ والسِرُواط والسُّرَطَة والسَّرَّاط والسِرِّطیط: جلد نگل جانے والا، بہت کھانے والا۔ السُّرَّیْطَی: سَرَط کا اسم، نگلنا السَّرَطان: تیز رو۔ فرسٌ سَرَطانٌ یا سرطانُ الجری :تیز رو گھوڑا۔ المَسرَط :خوراک نگلنے کی نالی۔ المِسرَط :خوراک نگلنے کی نالی، تیزی سے کھانے والا۔

۲۔السَّرَطان:(ح) کیکڑا۔ برج سرطان (فلکیات) پھوڑا جس میں رگیں کیکڑے کی ٹانگوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ اسے انگریزی میں کینسر کہتے ہیں۔

۳۔سَرطَعَ :ڈر کی وجہ سے سرپٹ دوڑنا۔

۴۔السُّرطَلُ :لمبا اور بے ڈول۔

۵۔السُّرطُم :لمبا اور بے ڈول۔ والسِرطَم :پیٹو، بہت کھاؤ۔

○ سَرِطَ ۔سَرَطًا و سَرَطانًا و سَرَطَ ۔ُہ :کونگلنا، تڑپ کر جانا۔ تَسَرَّطَ و اِستَرَطَ ہ :کونگلنا و تڑپ کر جانا۔ سَرَطان جمع سَرَطانات :جھینگا مچھلی، کینسر (طب) برج (فلکیات)۔ سرطان بحری :جھینگا مچھلی۔

سرع: ا۔ سَرِعَ ۔ُ و سَرُعَ ۔ُ سُرْعَةً و سِرْعًا و سَرَعًا و سِرْعًا و سَرْعًا و سَرَاعَةً :جلدی کرنا۔ سارَعَ الیه :کی طرف جلد جانا، کی طرف جلدی کرنا۔ و۔ فی الامر :کی کوشش کرنا۔ أَسرَعَ فی المشی :جلدی چلنا۔ تَسَرَّعَ الأمرُ :جلدی ہونا۔ تَسَرَّعَ الی الامر :کی طرف سبقت کرنا، تیزی کرنا۔ تَسَرَّعَ بالامر: کی سبقت کرنا۔ تَسارَعَ اِلی الامر: کی طرف سبقت کرنا، تیزی کرنا۔ السَّرِیع: تیز، جلد باز۔ سَرْعانَ و سِرْعانَ و سُرْعانَ: فتح پر مبنی اسم فعل بمعنی اَسرِعْ :جلد کر۔ سرعانَ القومُ: اے لوگو! جلد کرو، کبھی تعجب کے لئے آتا ہے۔ جیسے: لسَرعانَ مافعلت :تم نے کیسی جلدی کی۔ چنانچہ لفظ میں خبری اور معنی میں انشائی ہوتا ہے۔ السَّرعان م سَرْعی: جلد باز۔ سَرَعانُ و سَرَعانُ القوم اولخیل: سب سے آگے کے لوگ یا گھوڑے۔ جاء فی سَرَعان الناس: وہ پہلے آنے والوں میں آیا۔ السَّرِیع جمع سُرْعان م سَرِیعَة جمع سِراع: جلدی کرنے والا۔ شعر کی بحروں میں سے ایک بحر جس کا وزن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن فاعِلُن ہے۔ المِسْرَع والمِسْراع جمع مَسارِع ومَسارِیع: خیر یا شر کی طرف جلدی کرنے والا۔

۲۔السَّرْع جمع سُرُوع: انگور کی شاخ یا ہر تازہ شاخ۔ الأَسارِیع: کمان کی لکیریں۔ کہتے ہیں۔ قوسٌ ذات أَسارِیع: لکیروں والی کمان۔ واحد اُسرُوع ویُسرُوع (ح): سرخ جسم سیاہ سر والا کیڑا، گھن۔

۳۔السُّرعُوفَة (ح): سبز رنگ کا عجیب شکل کا کیڑا جو دوسرے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتا ہے۔

○ سُرْع و سِرع جمع أَسراع: باگ، لگام۔ سُرعة الخاطر: حاضر دماغی۔ سُرعة التصدیق: خوش اعتقادی۔ سُرعانَ ما: کتنی جلدی جلد، جلد ہی، ابھی، تھوڑی دیر میں، بہت جلد، فوراً آناً فاناً۔ السریع: ایکسپریس ٹرین۔ سَرِیعًا: تیز، تیز تیز، تیزی سے، جلدی سے بسرعت، جلد، فوراً، بلا تاخیر۔ سریع التاثر: آسانی سے متاثر ہونے والا، اثر پذیر، فوراً محسوس کرنے والا، حساس۔ سریع التردد: (برقیات) ہائی فریکوئنسی سریع الزوال: عارضی، چندروزہ، ناپائیدار، آنی جانی، گریزپا، برق پا۔ سریع الخاطر: تیز فہم سریع التصدیق: خوش اعتقاد، ضعیف الاعتقاد، بھولا۔ سریع الطلق (الطلقات): تیز فائر کرنے والا، تیز فائر۔ سریع العَطَب: جلد ٹوٹ جانے والا، نازک، کمزور۔ سریع التَنَقُّل: آسانی سے منتقل ہو سکنے یا کیا جا سکنے والا، جو آسانی سے قابو میں آ سکے۔ اَسرَع :زیادہ تیز۔ ما اسرَعَ لِمَن رایته: میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ سِراعًا :جلد، تیزی، جلدی میں۔ اِسراع: تیز چلانا، لے جانا یا کرنا۔ مُتَسَرِّع: بڑا تیز، سخت عجلت کا، بڑا جلد باز۔

سرغ: ا۔ سَرَغَ ۔َ سَرْغًا: انگور کے گچھے ڈنڈیوں کے ساتھ کھا جانا۔ السَّرْغ جمع سُرُوغ: انگور کی شاخ۔

۲۔السَرغاسُو (ن): نباتات کی ایک قسم جو پانی پر تیرتی رہتی ہے گرم سمندروں میں رہتی ہے۔ السُّرغُوس (ح): مچھلی کی ایک قسم۔

سرف: ا۔ سَرَفَ ۔ُ سَرْفًا تِ السُّرفَةُ الشجرةَ: کیڑے کا درخت کے پتے کھانا۔ ۔تِ الأمُ وَلَدَها: ماں کا بچے کو زیادہ دودھ پلا کر بیمار کر دینا۔ سَرِفَ ۔َ سَرَفًا الطعامُ: کھانے کو گھن لگنا۔ السُّرفَة (ح): سرخ جسم سیاہ سر والا کیڑا، گھن۔ اصنعُ من سُرفَة: سرفة سے زیادہ ماہر۔ ۔او الأُسروع (ح): لاروا (Larva) السَّراف: سرفہ کیڑے کا درخت کے پتوں کو کھا جانا۔ أرضٌ سَرِفَةٌ: زمین جہاں سرفہ کیڑے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ السَّرِیف: انگور کی بیلوں کی قطار۔

۲۔سَرِفَ ۔سَرَفًا الأمرَ: کو بھلانا، نہ جاننا، کی قلت یا کمی ہونا، کا پاس نہ ہونا کہتے ہیں۔ ما فی عطاء ھم مَنٌّ والا سَرَفٌ: وہ عطاء کی جگہ میں غلطی نہیں کرتے کہ غیر مستحق کو دیدیں اور مستحق کو محروم رکھیں۔ اسرَفَ فی کذا: میں غلطی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، جاہل ہونا، غافل ہونا۔ مُسرِف: غلطی کرنے والا، بے حد تجاوز کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ جاہل، غافل۔ السَّرَف: خطاء، اعتدال کی حد کو چھوڑنا۔ رجلٌ سَرِفُ الفؤاد: غافل۔ سَرِفُ العقل: کم عقل یا فاسد العقل۔

۳۔سَرِفَ ۔سَرَفًا القومَ: سے تجاوز کرنا۔ ۔الرجلُ بالخمر: شراب کا عادی اور بہت دلدادہ ہونا۔ أَسرَفَ المالَ: کو فضول خرچ کرنا۔ ۔فی کذا: میں حد سے تجاوز کرنا اور زیادتی کرنا۔ السَّرَف: حد اور اعتدال سے تجاوز۔ کہتے ہیں: أکَلَهُ سَرَفًا: اس نے جلدی میں کھایا۔ السُّرُوف: بہت بڑا۔

○ مُسرِف: حد درجہ، بے حد، بے اعتدال، حد سے زیادہ، فزوں از حد، فضول خرچ ضائع کرنے والا۔

سرق: ا۔ سَرَقَ ۔ِ سَرَقًا و سَرِقًا و سَرَقَةً و سَرِقَةً و سَرِقانًا منه الشیء و سَرَقَ هُ الشیءَ: کو سے چرانا، کی چوری کرنا کہتے ہیں۔ سرقو الیلةً من الشهر: جبکہ اس رات کو بڑی عیش وعشرت میں گزارا ہو۔ سَرَقَتنی عینی: میری آنکھ مجھ پر غالب آ گئی۔ سُرِقَ الرجلُ: کے گھر میں چوری ہونا۔ ۔صوتُهُ: آواز کا بیٹھنا۔ ایسا شخص مسروق الصوت کہلاتا ہے۔ سَرِقَ ۔َ سَرَقًا الشیءُ: کا پوشیدہ ہونا۔ ۔ت مفاصلُهُ: کمزور جوڑوں والا ہونا۔ سَرَّقَ هُ: کی طرف چوری کی نسبت کرنا۔ ۔الشیءَ: چیز چرانا۔ سارَقَ هُ النظرَ: ایک دوسرے کی طرف دزدیدہ نگاہ سے دیکھنا۔ النظر

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الیہ: کسی کو دیکھنے کے لئے موقع چرانا، کی طرف دیکھنے کے لئے اس کی غفلت کا منتظر ہونا۔ تَسَرَّقَ: تھوڑا تھوڑا چرانا، ایک ایک کر کے چرانا۔ ــــ النظرَ او السمعَ: چوری سے دیکھنا یا سننا۔ اِنْسَرَق عنهُ: سے پیچھے ہٹنا۔ ــ تْ مفاصلُهُ: کمزور جوڑوں والا ہونا۔ اِسْتَرقَ منه الشیءَ: سے چیز چرانا۔ ــــ السمعَ: چوری چھپے سننا۔ ــــ الکاتبُ بعض المحسبات: کلرک کا بعض حساب ظاہر نہ کرنا۔ السَرِقَة (مص): چرائی ہوئی چیز۔ السَارِق جمع سَرَقَة و سُرَّاق و سارقون م سَارِقَة جمع سَوَارِق (فا): چور، چوری کرنے والا۔ السَوَارِق: ہتھکڑیاں، بیڑیاں کہتے ہیں: عَضت به السوارقُ: یعنی ہتھکڑیوں نے اسے کاٹا۔ السَرَّاق: سارق کا مبالغہ کا صیغہ۔ مہا چور، بہت بڑا چور۔ السَرُوق جمع سُرُق: بمعنی سارق: السُرَاقة: چرائی ہوئی چیز۔ المُسْتَرِق (فا): کمزور، ناقص۔ مُستِرق العَنق: کوتاہ گردن۔

۲۔ السَرَقَة: جمع سَرَق: ریشمی کپڑے کا ٹکڑا (فارسی لفظ)

۳۔ السُرْقُع: ترش نبیذ۔

۴۔ السَرقِین و السِرْقِین: گوبر، کھاد۔

○ سَارَقَ النومَ: ہلکی نیند لینا۔ اِسْترق السمعَ: چھپ کر سن گن لینا، کن سوئیاں لینا (ریڈیو، ٹیلی فون) پر سرکاری سامع کا کام کرنا، سامعی کرنا، کو مانیٹر کرنا۔ اُسْتَرَقَ الانفاسَ: سانس پھول جانا، ہانپنا، کی سانس پھولنا۔ مَسْرُوقات: مسروقہ اشیاء مُنْسَرِقُ القوة: کمزور، ضعیف، مضمل، ناتواں، سخت تھکا ہوا۔

سرك: سَرِكَ - سَرَكاً: کمزور جسم والا ہو جانا، قوت کے بعد بدن کا کمزور پڑ جانا۔ سَرُوكَ و تَسَرُوكَ: کمزوری یا تھکاوٹ کی وجہ سے بے ڈھنگا یا آہستہ چلنا۔

○ سِرْك: سرکس، (فرانسیسی) (Cirque)

سَرْکی: (ترکی Sergi) ہنڈی جو حامل کو قابل ادا ہو۔ (Bill of exchange)

سرم: سَرَّمَهُ فَتَسَرَّم: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ السُرم جمع اَسْرَام (ع ا): مستقیم آنت اور مقعد کا کنارہ یا حصہ۔ عوام اسکی ادائیگی صاد سے کرتے ہیں۔ السَرَم: دبر کا درد۔ السُرمان و السِرمان (ح): زرد یا سیاہ بھڑ۔

۲۔ السَرْمُوجة: ایک قسم کا جوتا۔ عوام کے نزدیک سرمایہ جو اسے ص سے ادا کرتے ہیں (فارسی لفظ)

۳۔ السَرْمَدُ: دائم، ہمیشہ۔ لیل سَرْمَدٌ: لمبی رات۔ السَرْهَلِیّ: جس کا نہ اول ہو نہ آخر۔

○ سَرمَد: نہ ختم ہونے والا عرصہ، دوام، ابد، ابدیت۔ سَرْمَدی: ازلی ابدی دائمی، امٹ۔

۴۔ تَسَرمَطَ الشعرُ: بالوں کا ہلکا اور کم ہونا۔ السَرْمَط و السُرَامِط و المُسَرْمَط و السَرْمَطِیط: ہر لمبی چیز۔ السَرَوْمَط بمعنی سَرْمَط، چادر یا پوشش۔ رجل سَرَومط: ہر چیز نگل جانے والا۔

۵۔ السَرْمَق (ن): ایک سبزی۔

سره: ا۔ سَرهَدَ السنامَ: کوہان کاٹنا۔ ـ الصبیَ: بچہ کو اچھی طرح خوراک دینا۔ السَرْهَد: کوہان کی چربی۔ ماءٌ سَرْهَدٌ: بہت پانی۔ المُسَرْهَد (مفع): فربہ، موٹا۔

۲۔ سَرْهَفَ الغذاءَ: غذا کو عمدہ بنانا۔ الصبیَ: بچہ کو اچھی طرح خوراک دینا۔

○ سَرَندِیب: سیلون Ceylon

بَسْرُو: جمع۔ واحد سروة: سدابہار سرو۔

سرا: سَرَا و سَرُوَ - وسَرِیَ - سَرْوًا و سَرَاوةً و سَرًا و سَرًی و سَرَاءً: مروت و سخاوت والا ہونا۔ سُرِیَ القومُ: قوم کے سردار کا مارا جانا۔ سَارَی مُسَاراةً ہُ: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ تَسَرَّی تَسَرِّیاً: بناوٹی مروت و سخاوت دکھانا، لونڈی بنانا۔ اِسْتَری اِسْتِرَاءً: اختیار کرنا۔ ــــ الموتُ القومَ: قوم کے سرداروں میں موت واقع ہونا۔ السَرْو (مص) فضل، مروت میں سخاوت۔ السَرَاة جمع سَرَوات: پیٹھ، دن کی چڑھائی۔ من الطریق: راستہ کا بلند اور بڑا حصہ۔ سَرَواتُ القوم: قوم کے سردار یا سربراہ۔ السَرِیّ جمع سُرًی و سُرَاة و سَرَاة و اَسْرِیاء و سُرَوَاء م - سَرِیَّة جمع سَرِیَّات و سَرَایا: شرف میں مروت والا یا مروت میں سخی۔ شریف سخی، سردار، اچھی چیز۔

۲۔ سَرَا - سَرْوًا الجرادةُ: ٹڈی کا انڈے دینا۔ السِروَة (ح): ٹڈی جب کیڑا ہو۔

۳۔ سَرَا - سَرْوًا و سَرَّی تَسرِیةً و اَسْرَی اِسراءً الثوبَ عنه: کے کپڑے اتارنا۔ سُرِّیَ و انْسَرَی انسِراءً عنهُ الهمُ: سے غم کا جاتا رہنا۔

۴۔ السَرْو: سرو کا درخت واحد (مو): موسیقی کے صندوق کی آواز دار سطح میں سوراخ جو گول نہ ہو۔ السَرْوَة و السِرْوَة و السُرْوَة جمع سِرًی و سُرًی: چھوٹا تیر، بعض کے نزدیک چوڑے پھل کا تیر۔ السَرْوِیَة: صنوبر، سرو، وغیرہ قسم کے درختوں کا قبیلہ۔

۵۔ سَرْوَلَهُ: کو پائجامہ پہنانا۔ تَسَرْوَلَ: پائجامہ پہننا۔ السِرْوَال و السِرْوَالَة و السِروِیل جمع سَرَاوِیل و سراویلات: پائجامہ، مونث ہے کبھی مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے (فارسی لفظ)۔ فرسٌ مُسَرْوَل: بازوؤں اور رانوں سے آگے بڑھی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ حمامة مُسَرْوَلة: فاختہ، کبوتر جس کی ٹانگوں میں پر ہوں اور لگتا ہو جیسے پاجامہ ہے۔

○ سَرَّی عنه / عن قلبه: کو پریشانیوں سے چھٹکارا دلانا، کی پریشانیاں رفع کرنا، زائل کرنا۔ سَرَیّ همومَه: بہی معنی۔ سُرِّی عنه / عن نفسه: (غم، ملال خوف وغیرہ کا) کسی کا پیچھا چھوڑنا، دوبارہ دلجمعی، اطمینان، سکون حاصل کر لینا۔ انسری عنه: بمعنی سُرِّیَ عنه۔ سَرِیُ جمع سُرَواءُ اَسْرِیاء و سَرَاة: بلند رتبہ، بلند، عالی دماغ، شریف، ممتاز شخصیت، مشہور جمع سراة: ممتاز افراد، زعماء، سرکردہ طبقہ، بالائی سطح۔ سَرَاة جمع سَرَوات: پہاڑی، پیٹھ، چیف، سربراہ۔ سرواتُ القوم: قوم کے رہنما۔ تَسْرِیَة جمع تسریات: تفریح، کھیل۔

سری: - سَرَی - سُرًی و سَرْیَةً وسُرْیَةً و سِرایَةً و سَرَیَانًا و مَسْرًی و اُسْتَری: رات میں چلنا۔ سارٍ جمع سُراة: رات میں / کو چلنے والا۔ و۔ ـ به: کو رات کو سفر کرانا۔ سَرَّی قائدَ الجیش: کمانڈر کا دستہ فوج بھیجنا۔ سَارَی صاحبَهُ: کے ساتھ ساتھ رات میں چلنا۔ اَسْرَی اِسْرَاءً: رات میں چلنا۔ ہُ واَسْرَی به: کو رات کے وقت چلانا۔ السُرَی و السَرَیَان و السُرْیة: (مصادر) رات کو چلنا، کہتے ہیں۔ عند الصباح بحمدُ القومُ السُرَی: مراد مشقت برداشت کرنے سے ہی راحت کی جا سکتی ہے۔ اِبنُ السُرَی: رات کا مسافر۔ السَرَّاء: رات کو بہت چلنے والا۔ الساری (فا) جمع سُراة و المُساری و المُسْتَرِی (ح): شیر۔ السارِیة: مونث (الساری کا):۔ و۔ جمع سَوَارٍ: رات کو چلنے والی جماعت۔ رات کو آنے والا بادل۔ السَرِیَّة جمع سَرایا: فوج کا دستہ۔

۲۔ سَرَی - سُرًی و سَرْیَةً و سُرْیَةً و سِرَایَةً و سَرَیَانًا و مَسْرًی الهمُ: غم کا جاتا رہنا۔ سُرِیَ عنه: سے غم یا غصہ کا زائل ہو جانا۔ سَرَّی عنه او عن قلبه: کا غم و فکر دور کرنا۔

۳۔ سَرَی - سُرًی و سَرْیَةً و سُرْیَةً و سِرَایَةً و سَرَیَانًا و مَسْرًی عِرقُ الشجرة: درخت کی جڑیں زمین کے اندر پھیلتی چلی گئیں۔ ــــ الدمُ فی العروق: خون کا رگوں میں برابر دوڑنا۔ کہتے ہیں۔ سَرَی الجرحُ اِلی النفس: زخم کا اثر انداز ہو کر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جان لیوا ہونا۔ (وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا (اردو محاورہ) الاعراضُ الساریۃُ (طب): متعدی بیماریاں۔ السَّرِی جمع أَسْرِیَۃ و سُرْیَان: چھوٹی نہر۔

۴۔ أَسْرَی الرجلُ: کا کشادہ، اونچی زمین کی طرف جانا۔ تَسَرَّی و اِنْسَرَی: دیکھو (سرو) المَسْرَاۃ: ہر شئے کا بلند حصہ۔ سَرَاۃُ الجبل: پہاڑ کی چوٹی۔ الضحی: چاشت کا شروع۔ السَّارِیَۃ جمع سَوَارٍ: ستون۔ — عند الملاحین: ملاحوں کی اصلاح میں مستول السَّرِی: دیکھو (سرو) المَسْرَی او اللاحِب (ف): رات کو روانہ ہونے کی جگہ۔

۵۔ السِّرْیَۃ (ح): ٹڈی کا بچہ۔ السَّرَایَۃ و السَّرَایا جمع سَرَایات: قصر شاہی۔ حکومت کے محکموں کی جگہ۔ (فارسی لفظ) السَّرِیَّہ جمع سَرَایا: تیر کا چھوٹا گول پھل۔

۶۔ السریالیۃ: ۱۹۲۴ء میں جنم لینے والا، مکتب فکر جس کا رجحان منطق سے متعلق ہر دلچسپی کو نظر انداز کرتا تھا۔

○ سَرَی ـِ سُرًی و سَرْیًا و سَرَیَانًا و مَسْرًی: رات کے وقت سفر کرنا، رات کو روانہ ہونا، گردش کرنا، برقی رو کا بہنا — من: سے نکلنا، باہر جانا۔ —: پھیلنا، قانونی ہونا، کا قانونی طور پر جواز ہونا، موثر ہونا، نافذ ہونا (علی) کے لئے۔ — علی: پر اثر انداز ہونا، پر لاگو ہونا۔ — فی: میں سرایت کرنا، کے اندر دور تک چلے جانا (جذبہ، احساس کا)۔ اِلی نفسہ: کی روح میں رچ بس جانا، سرایت کرنا۔ سَرَی سُراہ: اپنا رات کا راستہ طے کرنا۔ سری مفعولُہ: کا قانونی، موثر، نافذ ہونا۔ أَسْرَی: رات کو سفر کرنا۔ أسری بہ: کو رات کے وقت سفر کرانا۔ سَرِی جمع أسریۃ و سُریان: ندی، کھاڑی، نالہ۔ آبجو۔ سَرِیَّۃ: (فوجی) فوج کا وہ حصہ جو علیحدہ کر کے کسی مہم پر بھیجا جائے، فوجی دستہ، چھاپہ مار پارٹی، کمپنی (عسکری) سریہ خیالۃ: گھڑ سواروں کا رسالہ Cavalary Squadron سَرِیَّۃ الطائرات: ہوائی جہازوں کا پرہ۔ سَرَیان: پھیلاؤ، انتشار، قانونی جواز، موثر ہونا، نافذ العمل ہونا۔ مَسْرَی محمد: یروشلم، جہاں سے نبی کریم ساتویں آسمان کو جاتے ہوئے رات کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ إِسراء: رات کا سفر۔ الاسراء: نبی کریم کا آدھی رات کے وقت ساتویں آسمان کی جانب سفر۔ سارٍ جمع سُراۃ: رات کو سفر کرنے والا، رات کے وقت رنگ رلیاں منانے والا۔ رات کا باز، شاہین، شکرا، چھوت کی یا متعدی (بیماری)، نافذ العمل، موثر، قانونی ساری المفعول، موثر، قانونی۔ سَارِیَۃ: مزاج کی کیفیت یا فضا جو ایک کمرہ میں عام ہو یا پھیل گئی ہو۔ جیسے ساریۃ من الجھامۃ: چھائی ہوئی اداسی۔ سُرِیان (اسم جمع) شامی، شام کے باشندے، مشرقی شام کے گرجا کے ارکان۔ سُرْیانی: شامی، مشرقی شام کے گرجا کا ایک رکن۔ سرْیاوران: زمانہ گزشتہ میں ایڈجوٹنٹ جنرل۔

سسب: السَّاسَب، السَّیْسَب والسیسب (ن): ایک درخت جس کی لکڑی سے تیر بناتے ہیں۔ السَّیْسَبَان (ن): ایک درخت کا نام جس کے بیج سے مثانہ کی پتھری ریزہ ریزہ کرنے کا علاج کیا جاتا ہے۔

سط: الأَسَطّ: لمبی ٹانگوں والا آدمی۔ السُّلُطُ: ظالم لوگ۔

سطب: المَسْطَبَۃ و المِسْطَبَۃ جمع مَسَاطِب: (ص کے ساتھ زیادہ بلیغ ہے)، چبوترہ، اہرن، کہکشاں (فلکیات) سائلوں اور غریبوں کے جمع ہونے کی جگہ، سرائے، ایک دیوار کے ساتھ سنگی بنچ۔

سطح: سَطَحَ ـَ سَطْحًا ہُ: کو بچھانا، پچھاڑنا، اتارنا۔ و۔ البیتَ: گھر کی چھت ہموار کرنا — الناقۃَ: اونٹنی کو بٹھانا۔ سَطَّحَ البیتَ: گھر کی چھت ہموار کرنا — ناقۃَ: اونٹنی کو بٹھانا۔ تَسَطَّحَ: ہموار ہونا۔ اِنْسَطَحَ: چت لیٹنا اور نہ ہلنا، پھیلنا۔ السَّطْح (ص): جمع سُطُوح: مکان کی چھت، ہر بلند اور اوپر سے چوڑی چیز۔ و۔ عند الحکماء: فلاسفہ کی اصطلاح میں وہ چیز جس کے تمام حصے برابر ہوں، کچھ اونچے اور کچھ نیچے نہ ہوں۔ اسے بسیط بھی کہتے ہیں۔ سطح الجلد (طب): کھال کا ظاہری حصہ۔ السطیح: پھیلا ہوا، کمزوری یا بیماری کے سبب سستی سے اٹھنے والا۔ — و السَّطِیحَۃ: مشک السُّطَّاح: واحد سُطَّاحۃ: زمین پر پھیلی ہوئی گھاس یا بیل۔ المِسْطَح: برابر کرنے کا اوزار، بیلن، خیمے کا ستون، کھلیان، خرمن۔ و المِسْطَاح: کھجور کی شاخوں کی چٹائی، کھجوروں، انجیر اور انگور سکھانے، خشک کرنے کی جگہ۔ کہتے ہیں: رأیتُ الارضَ مساطِحَ: میں نے دیکھا زمین میں کوئی چراگاہ نہیں۔ ایسی زمین کو ہموار چھتوں والے مکانات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ المُسَطَّح (ہ): ہموار، برابر، چپٹی جمع مسطحات: سطح۔ قدم مسطح: چپٹا پاؤں۔ انف مُسَطَّح: بالکل چپٹی ناک۔

○ سَطَحَ ـَ سَطْحًا (ہ): کو پھیلانا، کھولنا، ہموار کرنا، برابر کرنا، چوڑا کرنا، یکساں کرنا۔ — ہُ: کو زمین پر گرانا، پچھاڑنا۔ سَطَّحَ ... تَسَطَّحَ: پھیلنا، کھلنا، ہموار ہونا، برابر ہونا، پیٹھ کے بل لیٹنا۔ اِنْسَطَحَ: پھیلنا، کھلنا، چت لیٹنا، کاہل ہونا، سست ہونا۔

سطح: (سپاٹ) چھت، چبوترہ، روش، عرشہ جہاز (Deck) سطحُ البحر: سطح سمندر۔ سَطْحٌ مَائِل: ڈھلوان میدان (Inclined Plane) سطحی: خارجی، بیرونی، چپٹی، سطحی، اوپری۔ سطحیات: سطحی یا اوپری باتیں۔

سطر: ۱۔ سَطَرَ ـُ سَطْرًا ہُ: کو لکھنا۔ سَطَّرَ: افسانے لکھنا، قصے تصنیف کرنا — القرطاسَ: سطریں برابر کرنے کے لئے کاغذ پر لکیریں کھینچنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: سَـ ـ العبارۃ: عبارت لکھنا۔ سطّر القاری: قاری کا ایک سطر پڑھ کر بعد کی سطر کی طرف منتقل ہونا۔ و۔ علیہ: سے بے اصل اور زٹلیات سے مشابہ باتیں بیان کرنا۔ أَسْطَرَ: پڑھنے میں غلطی کرنا۔ اِسْتَطَرَ: لکھنا۔ السَّطْر: لکیر، لکھائی۔ و۔ والسَّطَر جمع أَسْطُر و سُطُور و أسطار و جمع الجمع اساطیر: قطار۔ السُّطُر: بناوٹ اور جھوٹ سے آراستہ باتیں۔ السُّطْرۃ: آرزو، امید، خواہش۔ الاسطار، والأسطار: (نیزہ کے ساتھ) جمع أساطر: لکھی ہوئی چیز۔ الأُسْطُور والأُسْطِیر جمع اساطیر: لکھی ہوئی چیز۔ الأُسْطُورہ والأُسْطِیرَۃ جمع أَسَاطِیر: لکھی ہوئی چیز، بے بنیاد بات کہتے ہیں۔ انْ ھذا الاّ اساطیرُ الاوّلین: یہ تو پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی حیرت انگیز باتیں ہیں، جن کی کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ المَسْطَرۃ و المِسْطَرۃ جمع مَسَاطِر: کاغذ پر لکیریں کھینچنے کا رولر، چپٹی، رول، عوام کے نزدیک سامان کا تھوڑا سا حصہ تا کہ وہ نمونہ ہو اور اس کا وصف اس سے معلوم ہو۔ المُسْتَطَر: مکتوب، لکھا ہوا۔ المسطار: پرکار۔

۲۔ سَطَرَ ـُ سَطْرًا ہُ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا — الرجلَ: کو پچھاڑنا۔ السَّاطِر والسَّطَّار: قصائی، قصاب۔ السَّاطُور جمع سَوَاطِیر: گوشت کاٹنے یا ہڈی توڑنے کا قصاب کا بگدا۔ المُسْطار و المُسْطارۃ و المِسطار والمِسْطارۃ: تیز شراب جو پینے والے کو پچھاڑ دے، پکانے سے پہلے انگور کا شیرہ، بلند غبار۔

سطع: ۱۔ سَطَعَ ـَ سَطْعًا و سُطُوعًا و سَطِیعًا الغبارُ او الرائحۃُ او النورُ: غبار، بو یا روشنی کا بلند ہو کر پھیل جانا — سَطَعًا: دراز گردن ہونا۔ اِسْطَعُ م سَطْعَاء: دراز گردن (والا) — رأسَہُ: گردن دراز کر کے سر اوپر کرنا۔ سَطَعَ ہُ: کو بلند کرنا، پھیلانا، اٹھانا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

السَطع (مص): غبار، روشنی، یا برق جو اونچی ہو کر پھیل جائے۔ السِطَاع: جمع سُطُع و اُسْطِعَة (ح): لمبا اونٹ، خیمہ یا گھر کا بلند ترین ستون۔ السَطِیع: صبح، لمبا، دراز۔ المِسْطَع: خوش بیان، فصیح۔ خطیبٌ مِسْطَع و مِصْقَع: خوش بیان خطیب

۲۔ سَطَعَ - سَطْعًا و سُطُوعًا و سَطِیعاً بیدیه: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔ ـــ سَطْعًا الشیءَ: کو چھونا۔ السَطع: تالی، تالی بجانے یا تیر پھینکنے کی آواز۔

۳۔ سَطَعَ - سَطْعًا البعیرَ: اونٹ کی گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔ سَطَّعَ البعیرَ: اونٹ کی گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔ السِطَاع جمع سُطُع و أَسْطِعَة: اونٹ کی گردن یا پہلو کا لمبا داغ۔

○ سَطَعَ - سَطْعًا و سُطُوعًا: اٹھنا، (گرد و غبار اور خوشبو) کا پھیلنا، چمکنا، تابندہ، درخشاں ہونا، چمکدار، روشن، منور، تاباں ہونا، واضح، صاف، آشکار ہونا۔ سَطْع: چمک، تابندگی، درخشانی، چمکداری، روشنی، دبک، تنویر، درخشانی، تابندگی۔ سَطْع: دھک دھک، گدا کا، بھداکا، دھڑام سے گرنا۔ سطُوع بمعنی سَطْع:

○ اَسْطَع: زیادہ چمکدار، زیادہ روشن، روشن تر، واضح تر، صاف تر، ظاہر تر۔ سَاطِع جمع سَوَاطِع: چمکدار، روشن، چمکیلا، چمکدار، تابان، تابندہ، روشنی دینے والا، واضح، صاف، ظاہر، بدیہی، بیّن (ثبوت)

سطل: ا۔ سَطَلَ - سَطْلاً هُ الدواءُ: دوا کا کسی کو مدہوش کرنا، نشہ دینا۔ ـــ ہُ: کو ششدر کرنا، اچنبھے میں ڈالنا، سخت حیران کرنا۔ اِنْسَطَلَ و اِسْتَطَلَ: ششدر ہونا، حیران ہونا۔ تَسَیْطَلَ: کہتے ہیں۔ جاء یَتَسَیْطِلُ: وہ اکیلا آیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ الساطِلُ من الغبار: بلند غبار۔ السَطْل: لمبا، دراز قد آدمی۔ السَطْلَة و المسطُوْل: بیوقوف۔ (عام بول چال میں)

۲۔ السَطْل جمع أَسْطَال و سُطُول: تانبے وغیرہ کا ایک دستے والا برتن، بالٹی، ڈول (فارسی لفظ) السَیْطل: بمعنی السَطْل: کہتے ہیں کہ السیطل تسلیے: کو کہتے ہیں۔ الاسطول جمع اساطیل: بحری یا ہوائی جہازوں کا بیڑہ۔ اسطولٌ بحریٌّ: بحری بیڑہ۔ اسطولٌ جوّیٌّ: ہوائی جہازوں کا بیڑہ۔

○ سَطَلَ - سَطْلاً ہُ: کو نشہ چڑھانا، مخمور کرنا، مدھوش کرنا۔ سُطِلَ: نشہ ہو جانا، کا مخمور ہونا، مدھوش ہونا۔ سَطْل: جمع أَسْطَال و سُطُول: بالٹی، ڈول، لکڑی یا دھات کی بالٹی۔ bucket

سطم: ا۔ سَطَمَ - سَطْمًا البابَ: دروازہ بند کرنا۔ عوام کہتے ہیں۔ سطم فاه و سطم الثقب: منہ بند کرنا، سوراخ بند کرنا۔ (سریانی لفظ) السِطام: بوتل کا ڈاٹ یا کارک۔

۲۔ السُطُم: جڑیں۔ السِطَام: آگ ہلانے کی کریلنی۔ ـ والسَطْم: تلوار کی دھار۔ الاسطام: کریلنی۔ الأُسْطُمّ و الأُسْطُمَّة من کل شیء جمع أَساطِم: ہر چیز کا درمیانی اور بڑا حصہ۔ ـــ من البحر: سمندر کی گہرائی۔ اسی سے ہے۔ ولیل طَمَا اُسْطُمُّهُ: رات کی تاریکی بڑھ گئی۔ اُسْطُمَّةُ القوم: قوم کے اکٹھے ہونے کی جگہ یا اجتماع، قوم کے اشراف کہتے ہیں۔ هو فی أسطمة قومه: وہ اپنی قوم کے اشراف میں ہے۔

○ سِطام: پلگ، ڈاٹ کاگ۔ Stopper

سطن: الساطِن: خبیث الأُسْطُون من الجمال: لمبی گردن والا اونٹ۔ الأُسْطُوانَة جمع أَساطین و أَسَاطِنَة: ستون، تھم، جانور کی ٹانگ۔ المُسْطَنّ: لمبی ٹانگوں والا۔ المُسَطَّنَة: کہتے ہیں۔ أَسَاطِینُ مُسَطَّنَةٌ: مضبوط ستون۔

○ اُسطوانة جمع اُسطوانات: ستون، تھم، کھمبا، لاٹھ، سلنڈر (انجن کا) فونوگراف ریکارڈ، جمع أساطین: بلند ممتاز شخصیات، ستارے، مشہور شخصیتیں، حکام، ارباب اختیار۔ اساطین الفن: عظیم فنکار (لوگ) اُسْطُوَانی: سلنڈر کا، سلنڈر کے متعلق۔

سطا: سَطَا - سُطُوًا و سَطْوَةً به و علیه: کو حملہ کر کے مغلوب کرنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا چوڑے چوڑے قدم اٹھاتے ہوئے دوڑ پڑنا۔ ـــ الماءُ: پانی کا زیادہ ہونا۔ ماسطوتُ فی طعامِ اُحدٍ: میں نے کسی کا کھانا نہیں کھایا۔ سَاطَی الرجُلَ: نے سختی یا نرمی کا برتاؤ کرنا۔ (ضد) أَسْطَی اِسطاءً علیه بمعنی سطا۔ السَاطِی (فا): دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔ دوڑتے ہوئے اپنی دم اوپر اٹھانے والا گھوڑا۔

○ سَطَا - سُطُوًا و سَطْوَةً ب / علی: پر اچانک حملہ کرنا اور قبضہ کرنا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا، کی گت بنانا، پر حملہ کرنا (صلہ علی) -- علی: (کسی جگہ) نقب لگانا، سیندھ لگانا، چوری کرنا -- علی: (کسی جگہ) میں بہ زور داخل ہونا، زبردستی گھس جانا۔ سَطْو: حملہ، نقب زنی، سیندھ۔ سطوة جمع سَطَوَات: حملہ، اثر، اختیار، اقتدار، احتمال، مفروضہ، دیدہ دلیری، شوخ چشمی، غرور، تکبر، نخوت، قوت، طاقت۔

سعّ: ا۔ سَعْسَعَ و تَسَعْسَعَ فلانٌ: بہت بوڑھا ہونا۔ ـــ الشیخُ: بوڑھے کا بڑھاپے کی وجہ سے لڑکھڑانا، قریب قریب قدم رکھنا۔

۲۔ سَعْسَعَ رأسَهُ: سر کو تیل سے تر کرنا۔

۳۔ السُعْسُع (ح): بھیڑیا۔

سعب: تَسَعَّبَ الشیءُ: لچلچا، لچیلا، لچک دار ہونا، ربڑ کی طرح ہونا، کھنچتا چلا جانا۔ اِنْسَعَبَ الماءُ: بہنا۔

سعت: السَعْتَر او الصَعْتَر (ن): پہاڑی پودینہ۔ السَعْتَرِی او الصَعْتَرِی: سخی، بہادر، چالاک۔

سعد: ا۔ سَعَدَ - سَعْدًا و سُعُودًا الیومُ: مبارک ہونا۔ سَعِدَ - وسُعِدَ سَعَادَةً: نیک بخت ہونا، خوش نصیب ہونا۔ سَعِیْد جمع سُعَداء و مَسْعُود جمع مَسَاعِید: نیک بخت، خوش نصیب۔ اَسْعَدَهُ اللّٰهُ: اللہ اس کو نیک بخت کرے۔ ایسا شخص مَسْعُود کہلاتا ہے۔ اُسے مُسْعَد نہیں کہتے۔ تَسَعَّد: مبارک ہونا۔ اِسْتَسْعَدَ بالشیء: کو اپنے لئے مبارک خیال کرنا۔ کہتے ہیں: اسْتَسْعَدَ فلانٌ بُرؤیة فلان: اس نے فلاں شخص کو دیکھنا مبارک سمجھا۔ السَعْد جمع أَسْعُد و سُعُود: برکت، خوش نصیبی۔ سَعْدَیك کہتے ہیں۔ لبَّیْكَ و سَعْدَیك: میں تمہاری خدمت کے لئے بار بار حاضر ہوں۔ السعادة: خوش بختی۔ تعظیم کا لفظ ہے۔ بعض عالی منصب اور بڑے لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ سَعَادَةُ فلان، صاحبُ السعادة اور اصحاب السعادة۔ سَعْدان: اِسعاد: کا اسم ہے۔ کہتے ہیں۔ سبحان اللّٰه و سُعْدانَه: میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں۔ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ السُعُودة: نحوست کا الٹ۔

۲۔ سَاعَدَهُ علی الامر: کی کسی کام میں مدد کرنا۔ سُعَدَه علی الامر: کی کسی کام میں مدد کرنا۔ الساعِد (فا) جمع سَوَاعِد: سردار کہتے ہیں۔ مالهم ساعد یعتمدونه: ان کا کوئی سردار نہیں کہ اس پر بھروسہ کریں۔ کلائی۔ کہتے ہیں۔ شَدَّ اللّٰه علی سَاعِدك: اللہ تمہاری مدد کرے۔ ساعِدا الطیر: پرندے کے بازو۔ کہتے ہیں۔ طائرٌ شدید السواعد: مضبوط بازو والا پرندہ۔ الساعِدة: چرخی کا ڈنڈا۔ سواعد کا واحد، نہر یا سمندر میں پانی جانے کا نالہ۔ ہڈی کے مغز کی نالی، تھن کے دودھ کی نالی۔ بازو بند۔

۳۔ تَسَعَّدَ الراعی: چرواہے کا سعدان گھاس کی چراگاہ تلاش کرنا۔ السُعْد (ن): سرد (cyperus) (ایک درخت) السُعَادَی: زخم بھرنے والی ایک

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

خوشبودار گھاس (ن) ایک پودا۔ السَّعْدان (ن): ایک خاردار بوٹی جو اونٹ کی مرغوب غذاء ہے۔ اس بارے میں ضرب المثل ہے۔ مَرْعًی ولا کالسَّعْدان: (ایک چیز کی عمدگی اور دوسری پر برتری ظاہر کرنے کے لئے بیان کی جاتی ہے۔)

۴۔ سُعُودُ النجوم (فلکیات): دس ستارے جن میں سے ہر ستارہ سَعْد کہلاتا ہے۔ السَّعْدَان (ح): بے دم کا بندر، بوزنہ۔ السَّعْدانة (ح): کبوتر۔ سَعْدَانَةُ الثَّدْیِ: پستان کا سرا یا اس کے آس پاس کی سیاہی۔

ⓢ سَعِدَ۔ وَ سَعِدَ سَعْداً و سعادةً: خوش ہونا، مسرور ہونا، خوش آئند ہونا، خوش قسمت ہونا، خوش نصیب ہونا۔ سُعِدَ: کسی چیز کے ملنے یا اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنا۔ سَاعَدَهُ: کی مدد کرنا، کو امداد دینا، کی اعانت کرنا (فی/علی: میں، سے) ـــ هُ: کا ہاتھ بٹانا۔ (فی/علی میں) ـــ هُ: کی تائید کرنا، حمایت کرنا، کی پشت پر ہونا یا کی پشت پناہی کرنا۔ (علی/فی میں) ـــ علی / لِ / فی: کا سبب بننا۔ میں مد ہونا، کا باعث ہونا۔ علی / فی: کی مدد کرنا، ہمت افزائی کرنا، ہمت بڑھانا، کی جرات دلانا۔ أَسْعَدَهُ: کو خوش کرنا، مسرور کرنا، کی مدد کرنا۔ أَسْعَدَهُ الحظُّ: سعادت حاصل کرنا (ب کی)۔ سَعْد: خوش قسمتی، خوش بختی، خوش نصیبی۔ الْهَیْئَةُ السَّعْدیةُ: سعدین (مصری ایک سیاسی تحریک) السَّعْدِیُوْن: سعدی، سعد زغلول (۱۸۵۶۔۱۹۲۷) کے حامی، پیرو۔ سَعِیْدٌ جمع سُعَدَاء: مسرور (ب، پر کے متعلق) منور، تاباں، چمکدار، روشن، مبارک، مسعود، خوش قسمت، خوش بخت، خوش نصیب، موزوں، برمحل، برمحل، باموقع، مناسب حال۔ سَعِیْدُ الذکر: مقدس یاد کا حامل، مرحوم۔ سَعَادَة: خوشی، سعادت، انتہائی خوشی، مسروری، خوش قسمتی، کامیابی، فروغ، پاشا کا لقب۔ سعادةُ: (نام) افسران بالا کا خطاب (شام، لبنان میں) سعادتکم: والاحضرت۔ صاحبُ السعادة: والاحضرت۔ دار السعادة: (استنبول کا قدیم نام) سعودی: سعودی۔ المملكةُ العربيةُ السعودية: سعودی عرب۔ سَعْدَان جمع سَعَادِین: بوزنہ، بے دم کا بندر۔ سَعْدَانَة جمع سَعْدَانات: سرپستان، گھنڈی، چوچی۔ سعدانة الباب: دروازہ کا دستہ، لٹو، موٹھ۔ أَسْعَد: زیادہ خوش، زیادہ خوش نصیب۔ سَاعِد جمع سَوَاعِد: بازو کا اگلا حصہ (کہنی سے کلائی تک) هو ساعده الایمن: وہ اس کا دست راست ہے، وہ اس کے لئے ناگزیر ہے۔ اِشْتَدَّ سَاعِدُهُ: مضبوط و طاقتور ہونا۔ فَتَّ فِي ساعده: کو کمزور کرنا۔ سَاعِدَة جمع سواعد: معاون دریا۔ مَسْعُود جمع مَسَاعِید: خوش، خوش قسمت، خوش نصیب، مبارک، مسعود۔ مساعد۔ مساعد: مددگار، مدد، اسسٹنٹ (صفت و اسم) ایڈجوٹنٹ (کمانڈنگ افسر کا نائب، معاون) مُسْعَد: خوش نصیبی سے نوازا ہوا، خوش قسمت، خوش بخت۔

سعر: ۱۔ سَعَرَ ۔ سَعْراً النارَ: آگ جلانا۔ سعرناهم بالنبل: ہم نے انہیں تیروں سے جلایا اور تکلیف پہنچائی۔ سُعِرَ الرجلُ: گرم ہوا سے جھلس جانا۔ سَعَّرَ و اَسْعَرَ النارَ: آگ جلانا۔ تَسَعَّرَتِ النارُ: آگ کا جل پڑنا۔ ـــ الحطبُ: لکڑی کا آگ پکڑ لینا۔ اِسْتَعَرَ: بھڑکنا۔ السُّعْر: گرمی، بہت بھوک۔ السُّعْرَة (ف): حرارت کی مقدار ناپنے میں اکائی۔ رمیٌ سُعْرٌ: انتہائی دردناک تیراندازی۔ السَّعْرَةُ: کام کی ابتداء اور شدت، کھانسی۔ السُّعَار: گرمی، پیاس کی شدت، بھوک کی تیزی۔ السَّعِیر: جمع سُعُر: آگ کی لپٹ۔ السَّاعُوْر: آگ، تنور۔ الساعورة: آگ۔ المِسْعَر: آگ جلانے والا (کہتے ہیں: هو مسعر ضرب: وہ لڑائی کی آگ بڑھکانے والا ہے)۔ حرارت ناپنے کا آلہ، سخت۔ کلبٌ مِسْعَرٌ: پاگل کتا۔ المِسْعَار: آگ کریدنی، سلاخ کرچھا۔ المَسْعُور: پیٹ بھرنے پر بھی کھانے کا حریص۔

۲۔ سَعَرَ البعیرُ الابلَ بِجَرَبِه: اونٹ کا دوسرے اونٹوں میں خارش پھیلا دینا۔ ـــ القومَ شرًّا: ساری قوم میں بدی پھیلانا۔ أَسْعَرَ البعیرُ الابلَ بجربه: اونٹ کا دوسرے اونٹوں میں خارش پھیلا دینا۔ اِسْتَعَرَ الجرب فی البعیر: اونٹ کی بغل وغیرہ میں کھجلی شروع ہونا۔ ـــ الشرُّ: برائی پھیلنا۔ السُّعْر: وباء۔ مُسَاعِر البعیر: اونٹ کی بغلیں اور وہ تمام حصے جہاں میل جما ہوتا ہے کہتے ہیں۔ اخذ الجربُ فی مساعر البعیر: اونٹ کی بغلوں میں خارش پیدا ہوگئی۔

۳۔ سَعَرَ ۔ سَعْراً اللیلَ بالمطیِّ: رات سواری پر سفر کرتے گزارنا۔ ـــ تِ الناقةُ فی سَیْرِها: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ سَعُوْر: تیز رفتار اونٹنی۔ کہتے ہیں۔ سعرتُ الیوم فی حاجتی سَعْرَةً: آج میں اپنی ضرورت کے سلسلہ میں سارا دن سرگرداں رہا، چکر کاٹتا رہا۔ سُعِرَ البعیرُ: اونٹ کا پاگل ہو جانا۔ مسعور: پاگل اونٹ۔ سَعِرَ ۔ سَعَراً الفرسُ: گھوڑے کا سرپٹ دوڑنا۔ السُّعُرُ و السُّعْرُ: پاگل

سُعْرَى: پاگل ناقةٌ مسعورةٌ: دیوانی اونٹنی، جو غم کی وجہ سے ایک جگہ نہ ٹکے۔

۴۔ سَعَّرَ الشیءَ: کا اندازہ لگانا یا نرخ مقرر کرنا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا کسی بھاؤ پر متفق ہونا۔ سَاعَرَ مُسَاعَرَةً هُ: کے ساتھ بھاؤ یا نرخ ٹھہرانا۔ السِعر جمع أَسْعار: قیمت، نرخ، بھاؤ۔

۵۔ السَّعَر و السُّعْرَةُ: سیاہی مائل رنگ۔ الساعُوْر: بکری کا پہلے سال کی عمر کا بچہ۔ الأَسْعَر م سَعْراء جمع سُعْر: دبلا پتلا جس کے پٹھے دکھائی دیں، سیاہی مائل رنگ والا۔ المِسْعَر: لمبی گردن۔

ⓢ سَعَرَ ۔ سَعْراً هـ: (آگ) جلانا، (جنگ) شروع کرنا یا بھڑکانا۔ سُعِرَ: دفعتہً جل اٹھنا، پاگل ہو جانا۔ سَعَّرَ هـ: (آگ) جلانا (جنگ) شروع کرنا، بھڑکانا۔ ـــ هـ: کی قیمت لگانا یا مقرر کرنا۔ سَاعَرَهُ: کے ساتھ نرخ یا بھاؤ کے متعلق سودا کرنا، معاملہ طے کرنا، بول تول کرنا۔ أَسْعَرَ هـ: (آگ) جلانا۔ تَسَعَّرَ: جلنا، بھڑکنا، آگ بھبھوکا ہو جانا۔ انسَعَرَ: پاگل ہونا، طیش میں آنا۔ اِسْتَعَرَ: جلنا، بھڑکنا (جنگ کا) یکا یک شروع ہونا۔ سِعر جمع أَسْعار: قیمت، نرخ، ایکسچینج کا نرخ (سٹاک مارکیٹ) قیمت۔ سِعر الخصم: منہائی کا نرخ، بینک کا نرخ۔ سِعر التسلیف: سود کا نرخ، شرح سود۔ سِعرُ الفائدہ: شرح سود۔ سِعرُ القَطْع: منہائی کا نرخ، بینک کا نرخ۔ سِعر القِطْعة: ٹکڑے کی قیمت۔ سُعْر و سُعُر: پاگل پن، جنون، پرلے درجہ کی حماقت۔ سَعِیر جمع سُعُر: بھڑکتا شعلہ، آگ، لپٹ، دوزخ، جہنم۔ مِسْعَر جمع مَسَاعِر و مِسعار جمع مَسَاعِیر: آگ کریدنی، سلاخ (آگ کو چھیڑ کر تیز کرنے کے لئے) تَسْعِیر: قیمت لگانا یا مقرر کرنا۔ تَسْعِیرَة: قیمت لگانا، مقرر کرنا۔ لجنة التسعیرة: قیمتیں مقرر کرنے والا کمشن تَسْعِیرة: قیمت (سٹاک ایکسچینج) مَسْعُور: پاگل، سودائی۔

سعط: سَعَطَ ۔ ـُ سَعْطاً و سَعَّطَ و أَسْعَطَهُ الدواءَ: کی ناک میں دوا ڈالنا کہتے ہیں۔ أَسْعَطَهُ الرُّمْحَ: اس کی ناک میں نیزہ مارا۔ أَسْعَطَهُ عِلْماً: اس نے اس کو علم خوب سمجھایا۔ اِسْتَعَطَ الدواءَ: ناک میں دوا ڈالنا۔ اِسْتَعَطَهُ: کو ناک میں دوا ڈالنے کے لئے کہنا۔ السُّعاط: بو کی تیزی۔ السَّعُوط (طب): ناک میں ڈالنے کی دوا، نسوار، عام لوگ اسے عطوس کہتے ہیں۔ السَّعِیط: بو کی تیزی، شراب وغیرہ کی خوشبو (ن) بان کا درخت، بان کے درخت کا تیل، رائی کا تیل۔ المِسْعَط و المُسْعُط: نسوار کی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ڈبیہ۔
○ اِسْتَعْطَ ہ : (نسوار) لینا، کھانا۔ سَعُوط : نسوار۔ مِسْعَط: نسوار کی ڈبیا۔

سعف: ۱۔ سَعَفَ - سَعْفًا ہٗ بحاجتہ: کی حاجت روائی کرنا۔ سَاعَفَ ہٗ: کی مدد کرنا۔ أَسْعَفَ ہٗ بحاجتہ: کی حاجت روائی کرنا — ہٗ علی الامر: کی کسی معاملہ میں مدد کرنا، مدد دینا۔ — بالرجل: کے قریب ہونا — الشیُ: قریب ہونا، نزدیک ہونا — الیہ: کی طرف توجہ کرنا، کا ارادہ کرنا۔ لَہُ الصیدُ: کو شکار کا موقع ملنا۔ — تِ الحاجۃ: حاجت کا قریب ہونا۔ المُسَاعِف (فا): قریب، نزدیک، کہتے ہیں۔ مکانٌ مُسَاعِف: قریب کی جگہ۔

۲۔ سَعِفَ - سَعَفًا: ناخنوں کے اردگرد سے انگلیوں کا پھٹ جانا۔ سُعِفَ: پھنسیوں والا ہونا۔ مَسْعُوْف: پھنسیوں والا۔ تَسَعَّفَ تِ اظفارہٗ: ناخنوں کا پھٹنا۔ السَّعْفَۃ (طب): سر یا چہرے پر نکلی ہوئی پھنسیاں۔ السَّعَف (طب): اونٹ کے منہ کی خارش کی طرح کی بیماری۔ الأَسْعَفُ من الابل م سَعْفَاء جمع سُعْف: منہ کی بیماری والا اونٹ۔ السُّعَاف (طب): ناخنوں کے گرد، پھٹن اور چیت اکھڑنا۔

۳۔ سَعَّفَ المسکَ: مشک کو دوسری خوشبوؤں سے ملانا۔

۴۔ السَّعَف: سامان، خسیس وحقیر آدمی۔ السَّعَف جمع سُعُوف: دلہن کا جہیز، گھر کا اسباب۔ واحد سَعَفَۃ: کھجور کی شاخ۔ السُّعُوْف: بڑے پیالے، انسان کی فطری عادتیں جیسے جود وسخا وغیرہ (اس کا مفرد مسموع نہیں) الأَسْعَفُ من الخیل م سَعْفَاء جمع سُعْف: سفید / بھوری پیشانی والا گھوڑا۔

○ سَاعَفَ ہٗ: کی مدد کرنا، تائید کرنا۔ أَسْعَفَ ہٗ ب: کی خواہش پوری کرنا، کو خوش کرنا، کی بات ماننا (ب میں) کو عطا کرنا (ب، کچھ) — ہٗ: کی مدد کرنا، کو مدد دینا۔ إِسْعَاف جمع اسعافات: امداد، ریلیف، مدد، طبی خدمت۔ الاسعاف: فرسٹ ایڈ۔ اِسْعَاف العَجَزۃ: عمر رسیدہ لوگوں کی دیکھ بھال۔ جَمْعِیَّۃ الاسعاف: سول ایمبولینس سروس۔ رِجال الاسْعَاف: فرسٹ ایڈ والے، ایمبولینس والے، ہسپتال کے اردلی، ہسپتال کے طبی شعبہ کے لوگ۔ سَیَّارَۃ الاسْعَاف: ایمبولینس Ambulance

سعل: ۱۔ سَعَلَ - سُعَالاً و سُعْلَۃً: کھانسنا۔ أَسْعَلَ ہٗ: کو کھانسی میں مبتلا کرنا۔ السُّعَال (طب): کھانسی۔ قَصَبُ السُّعَال (ع ا): پھیپھڑے کی رگیں۔ حَشِیْشَۃ السُّعال: نیز السُّعَالِی (ن): دوائی کا ایک پودا۔ السَّاعِل و المَسْعَل: گلا، حلق۔ جہاں کھانسی آئے۔

۲۔ سَعَلَ - سُعْلاً: چست ہونا۔ أَسْعَلَ ہٗ: کو چست بنانا۔

۳۔ اِسْتَسْعَلَ تِ المرأۃُ: عورت کا چڑیل یا بھتنی جیسا ہونا۔ السِّعْلاء و السِّعْلاۃ و السِّعْلِی جمع سَعَالی و سِعْلِیَات: بھتنی یا بھوت۔

○ سَعَلَ - سُعْلَۃً و سُعَالاً: کھانسنا۔ سُعْلَۃ و سُعَال: کھانسی السُّعَال الدِّیکی: کالی کھانسی۔ سِعْلِی جمع سِعْلِیَات و سِعْلَاۃ ج سَعَال: (آسیب بھوت پریت بدروح کا مونث) بھتنی، چڑیل۔

سعم: ۱۔ سَعَمَ - سَعْمًا البعیرُ: اونٹ کا تیز رفتار ہونا، تیز چلنا۔ سَعُوْم: تیز رفتار (اونٹ)۔ سیل مِسْعَام او مُسْعَام: تیز رفتار سیلاب، تند و تیز بہنے والا سیلاب۔

۲۔ سَعَمَ - سَعْمًا و سَعَّمَ ہٗ: کو غذا دینا۔

سعن: ۱۔ أَسْعَنَ: سائبان بنانا، بڑا خیمہ لگانا۔ السُّعْنَۃ جمع سُعَن: شامیانہ، سائبان، خیمہ، اونٹ کا اوپر کا لٹکا ہوا اونٹ۔

۲۔ السُّعْن جمع سِعَنَۃ: بڑا ڈول (چمڑے کا) السَّعْن: چربی، خالص شراب۔ السَّعْنَۃ: مبارک، منحوس (ضد)، کھانے کی کثرت یا قلت۔ کہتے ہیں۔ مالہ سَعْنَۃٌ ولا مَعْنَۃ: اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ عید السَّعَانِین: مشہور عید الشعانین ہے۔ عید فصح سے قبل اتوار کی عید (عبرانی لفظ)۔ ھو شیعہ نا (اس نے ہمیں نجات دی) سے ماخوذ۔

سعو: السَّعْو و السِّعْو و السِّعْوَۃ و السِّعْوَاء و السُّعْوَاء: رات کی ایک گھڑی۔ الأَسْعَاء: کرات کی گھڑیاں۔ السَّعْوَۃ: رات کی ایک گھڑی، موم بتی، موم۔ السَّعَاوِیّ: بیداری یا سفر کو بہت صبر سے برداشت کرنے والا۔

سعی: ۱۔ سَعَی - سَعْیًا: کام کرنا۔ سعی تِ الأمۃُ: لونڈی کا زنا کرنا۔ فی حاجۃ الرجل: کی حاجت پوری کرنے کی راہ نکالنا، کی حاجت روائی کا باعث بننا۔ — لِلامر: کے حصول کا بندوبست کرنا۔ لِعیالہ: اپنے دست نگر لوگوں کے لئے کسب معاش کرنا۔ سِعَایَۃُ المُتَصَدِّق: صدقات کے کام سر انجام دینا۔ سَاعَی ہٗ: کوشش میں کسی پر غالب آنا کہتے ہیں۔ ساعانی فلانٌ فسعیتہ: وہ کوشش میں مجھ پر غالب آیا تو میں نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ أَسْعَی إِسْعَاءً الرجلَ: سے کوشش کروانا۔ اِسْتَسْعَی اِسْتِسْعَاءً الرجلَ: کو صدقات جمع کرنے پر لگانا اور صدقات دینے والوں سے وصول کرنے کا کام سونپنا۔ — العبدَ: آزادی حاصل کرنے کے لئے غلام سے کام کرانا۔ السَّاعی جمع سُعَاۃ (فا): محصل، اکثر استعمال صدقات وصول کرنے والا کے معنی میں ہوتا ہے۔ المَسْعَی جمع مَسَاعٍ: کوشش، مسلک، تصرف۔ المَسْعَاۃ جمع مَسَاعٍ: نیک کام۔

۲۔ سَعَی - سَعْیًا: چلنا، دوڑنا۔ — الیہ: کا قصد کرنا۔ سِعَایَۃً و سَعْیًا بفلان عند الأمیر: حاکم سے کی چغل کھانا، کی بدگوئی کرنا۔ أَسْعَوا بہ: کی تلاش کرنا۔ السِّعَایَۃ (مص): چغل خوری۔ السَّاعِی (فا): ڈاکیا۔

○ سَعَی - سَعْیًا: جلدی جلدی حرکت کرنا، دوڑنا، تیز چلنا، چاند کا آسمان کے آر پار حرکت کرنا۔ — الی: کی جانب بڑھنا، جانا۔ ل / الی: کے لئے جدوجہد کرنا، سخت کوشش کرنا، کرنے کی آرزو کرنا، متمنی ہونا — اِلی / ل / وراء: کے لئے کام کرنا، کے حصول کے لئے دوڑ دھوپ کرنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا — وراء: کے پیچھے دوڑنا کا تعاقب کرنا، کے حصول کے پیچھے لگا رہنا، کے حصول میں پیچھے لگا رہنا — فی: کسی معاملہ میں قدم اٹھانا۔ بہ الی: کی کی طرف رہنمائی کرنا، پر مجبور کرنا۔ سعی فی الارض فساداً: زمین پر برائی پھیلانا۔ سعی لِحَتْفِہ بِظِلْفِہ: اپنی آپ قبر کھودنا، اپنے آپ کی بربادی کا سامان کرنا۔ سعی فی خراب الشیء: کی تباہی کے لئے کام کرنا، کی اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کرنا۔ سَعَی - سَعْیًا و سِعَایَۃً (ب): پر بہتان باندھنا۔ (عند / الی کے پاس)۔ عند / الی کے ہاں (ب) کو بدنام کرنا، کی ساکھ ختم کرنا۔ تَسَاعَی: کے لئے افراتفری میں آنا، جانا۔

○ السَّعْی: صفا و مروہ کے مابین، حج کے دوران سات دفعہ دوڑنے کی رسم، کوشش، جدوجہد، دوڑ فکر، مال مویشی (Live Stock)۔ سِعَایَۃ: افترا پردازی، بہتان تراشی۔ ساعٍ جمع ساعون و سُعَاۃ: قاصد، آفس بوائے، چپڑاسی، بہتان تراش، افترا پرداز۔ ساعی البرید: ڈاکیا۔

سغ: سَغْسَغَ الوتدَ: میخ کو اپنی جگہ سے ہلانا — ہٗ فی التراب: کو مٹی میں دھنسانا — رأسَہٗ بالدُّھن: سر کو تیل لگانا — الدھنَ فی رأسہ: سر میں تیل لگانا۔ تَسَغْسَغَ من الأمر: سے رہائی پانا، خلاصی پانا — فی الارض: زمین میں داخل ہونا۔

سغب: سَغَبَ - وسَغِبَ - سَغْبًا و سُغُوبًا و سَغَبًا و سَغَابَۃً و مَسْغَبَۃً: بھوکا ہونا۔ ساغبٌ و سَغِبٌ و سَغْبَان م سَغْبَی جمع سِغَاب: بھوکا۔ أَسْغَبَ القومُ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

قوم کا قحط سالی میں مبتلا ہونا۔ السَّـغَـاب: بھوک
المُسَغَّب: جائز۔
۞ سَغِبَ - سَغَبًا: کا سخت آرزو مند ہونا، ___: بھوکا
ہونا، بھوکا ہوجانا۔ سَغَب و سَغَابَةٌ: بھوک، فاقہ،
فاقہ کشی۔ مَسْغَبَة: قحط۔ سَاغِب: بھوکا، فاقہ کش۔
سغد: سُغِدَ سَغْدًا: سوجنا، ورم ہونا۔ فِصَالٌ سَاغِدَةٌ و
سُغَدَةٌ و مُسَاغِدَةٌ: اونٹ کے دودھ سے سیراب اور
موٹے بچے۔ السَّغْد (مص): ہلکی بارش۔
سغل: سَغِلَ - سَغَلاً: لاغر ہوکر جھریاں پڑنا۔ سَغِل:
لاغر اور جھریوں والا۔
سغم: ا۔ سَغَّمَ هُ الماءَ: کو گھونٹ گھونٹ کرکے پانی
پلانا۔ الــوَلَـدَ: بچے کو اچھی غذا دینا، بچے کی پرورش
کرنا۔ سُغِمَ و أُسْغِمَ: کا اچھی خوراک دیا جانا۔
المُسَغَّم و المُسْغَم: اچھی غذا والا، ناز و نعمت کی وجہ
سے فربہ لڑکا۔
۲۔ أسْغَمَ هُ: کو بہت اذا میں دینا۔
سغو: السَّاغُو او دقيق النخل: درخت خرما کے تنے
کے گودے سے نکالا ہوا نشاستہ دار غذائیت والا آٹا۔
السَّاغُوتِيَة (ن): خرما کے درخت کی ایک قسم جو سیام
اور انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے۔ ایک درخت سے
تقریباً چار سو ساغو بنایا جاسکتا ہے۔
سف: ا۔ سَفَّ - سَفِيفًا الطائرُ او السحابُ: پرندہ یا
بادل کا زمین کے قریب ہوکر اڑنا یا گزرنا۔ أَسَفَّ
إِسْفَافًا الرجُلُ: کا بھاگ جانا، ادنی باتوں کے پیچھے
پڑنا، کہتے ہیں۔ أَسفَّ الى الامور الدنيّة: وہ ادنی
باتوں کے قریب ہوا۔ الطائرُ او السحَابُ: پرندے
یا بادل کا زمین کے قریب ہونا۔ السِفّ و السُفّ
(ح): ایک قسم کا باریک لمبا سانپ۔
۲۔ سَفَّ - سَفِيفًا الخوصَ: کو کھجور کی پتیوں سے بننا۔
(خُوص اسم جمع واحد خوصة) درخت خرما کے پتے)۔
اَسَفَّ الخوصَ: بمعنی سَفَّ ـ الشيءَ: بعض کو بعض
سے ملا کر جوڑنا۔ ـ الأَمرَ: کے قریب ہونا۔ النظرَ:
تیز نظر سے دیکھنا۔ السُفّة: کھجور کے پتوں کی ٹوکری۔
موباف ۔ السَفِيف (مص): کھجور کے پاتوں سے
بنی ہوئی چیز۔ زین کا تنگ۔ السَفِيفَة جمع سَفَائِف:
کجاوہ باندھنے کا چوڑا، پٹا، یا تنگ۔ من الخوص:
کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی کوئی چیز۔
۳۔ سَفَّ - سَفِيفًا الماءَ: بہت پانی پی کر بھی سیراب نہ
ہونا۔ ـ سَفًّا الدواءَ و السويقَ و نحوهما: دوایا
ستو وغیرہ کو سفوف کی شکل میں کھانا، پھنکی بنا کر پھانکنا۔
اَسَفَّ إِسْفَافًا البعيرَ: اونٹ کو خشک گھاس چرانا۔ ـ

الفرسَ اللجامَ: گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالنا کہتے
ہیں۔ ما أسفَّ منه بشيءٍ: اس نے اس سے کچھ
حاصل نہیں کیا۔ أُسِفَّ وجهُهُ: چہرے کا رنگ پلٹ
جانا۔ إِسْتَفَّ الدواءَ: دوا پھانکنا، سفوف کی شکل میں
کھانا۔ السُفَّة: مٹھی بھر گیہوں وغیرہ۔ والسَفُوف:
دواء وغیرہ کی پھنکی۔
۴۔ سَفْسَفَ الدقيقَ: آٹا چھاننا۔ العملَ: کام کو اچھی طرح
نہ کرنا۔ تِ الريحُ: ہوا کا کسی چیز کو زمین پر اڑا دینا۔
السَفْسَاف: ناکارہ اور ردی چیز۔ (کہتے ہیں: فلانٌ
سفسافُ الكلام: اس کی بات کا معنی نہیں۔ یعنی وہ
فضول گو ہے، بے تکی ہانکتا ہے، حقیر چیز۔ من الدقيق:
آٹے کا غبار کی طرح اڑنے والا باریک حصہ۔ ـ من
التراب: باریک مٹی۔ من الشعر: ردی و ناقص
شعر۔ المُسَفْسِفَة: غبار اڑانے والی ہوا۔
۵۔ السَفِيف: ابلیس کا نام۔
۞ اسَفَّ: اترنا، ڈوبنا، پھسل پڑنا، جھکنا، مائل ہونا، گرنے
لگنا (مجازاً) اسف الى: کس ذلیل حرکت پر اتر آنا
(مجازاً)۔ ـ النظر اليه: کی طرف تیز نگاہ سے دیکھنا۔
اِستف ه: (کوئی خشک چیز) کھانا، نگلنا، پھانکنا۔
سفوف: پاؤڈر کی شکل میں دوا۔ اسفاف: زوال
انحطاط (مجازاً)، معمولی سی چیز، فضول بات۔
سفت: ا۔ سَفِتَ - سَفَتًا: بہت پینے کے باوجود سیر نہ
ہونا۔ السَفِت: بے برکت کھانا۔
۲۔ سَفْتَجَ هُ: کے ساتھ ہنڈی کے ذریعے معاملہ کرنا۔
السِفْتَجَة جمع سفاتج (ت): ہنڈی۔
سفح: ا۔ سَفَحَ - سَفْحًا و سُفُوحًا الدمَ او الدمعَ:
خون یا آنسو بہانا۔ ـ سَفْحًا و سُفُوحًا و سَفَحَانًا
الدمعُ: آنسو بہنا، ٹپکنا۔ صفت سَافِح جمع سَوَافِح:
(جیسے فارس و فوارس) سَفَّحَ الرجُلُ: بے فائدہ کام
کرنا۔ سَافَحَا و تَسَافَحَا: زنا کرنا، بدکاری کرنا۔
سَفْحُ الجبل جمع سُفُوح: دامن کوہ، جانب کوہ اور
گذرگاہ جس میں پانی بہتا ہے۔ السِفَاح (مص):
زنا کہتے ہیں۔ تزوج المرأةَ سِفاحًا: سنت اور کتاب
کے بغیر نکاح کیا۔ نیز کہتے ہیں۔ بينهم سِفاح: ان
کے درمیان خونی لڑائی ہے۔ السَفَّاح: بہت خون
بہانے والا، بڑا فیاض، خوش بیان، شیریں کلام۔
۲۔ السَفِيح: جوئے کا ایک تیر جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا،
اون یا بالوں کی گون، موٹی چادر۔ الأَسْفَح: وہ شخص
جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال جھڑ گئے ہوں،
صاف چندیا والا۔
۞ سَفَحَ ـ سَفْحًا و سُفُوحًا ...

سَافَحَ ه: کے ساتھ زنا کرنا، زنا کاری کرنا۔ تَسَافَح:
زنا کرنا، بدکاری کرنا۔ سَفْح جمع سُفُوح: دامن کوہ
سُفُوح جمع سپاٹ سنگلاخ سطح سَفَّاح: خون بہانے
والا، قاتل سفاح: زنا، بدکاری۔
سفد: ا۔ سَفَدَ ـِ و سَفِدَ - سِفَادًا الذكرُ انثاه و سفد
عليها و سافدها سِفَادًا و مُسَافَدَةً: نر کا اپنی مادہ
سے جفتی کرنا۔ اَسْفَدَهُ: کو جفتی کرانا۔ اِسْتَسْفَدَ
لبعيرَ: اونٹ پر پیچھے سے سوار ہونا۔
۲۔ سَفَّدَ اللحمَ: گوشت کو بھوننے کے لئے سیخ میں
پرونا۔ السَفُّود جمع سَفَافِيد: گوشت بھوننے کی سیخ۔
سفر: ا۔ سَفَرَ - سُفُورًا: سفر پر نکلنا۔ سَفَّرَ الرجُلَ: کو
سفر پر بھیجنا۔
سَافَرَ سِفَارًا و مُسَافَرَةً الى بلد كذا: کسی شہر کی طرف
سفر کرنا، کے سفر پر روانہ ہونا۔ ـ فلانٌ: مرنا۔ تَسَفَّرَ:
شروع رات میں آنا یا چرانا۔ اِنْسَفَرَتِ الاءبِلُ:
اونٹوں کا زمین میں جانا۔ السَفْر: کہتے ہیں۔ رجُلٌ
سَفْرٌ یعنی مسافر مرد۔ قومٌ سَفْرٌ: مسافر لوگ۔ نَاقَةٌ
سَفْرٌ: سفر کرنے والی اونٹنی۔ ___ جمع سافر جیسے
صَحْب و صاحب: مسافرین السَفَر جمع أَسْفَار:
مسافت کو طے کرنا۔ السُفْرَة جمع سُفَر: مسافر کا
کھانا، دسترخوان۔ السَافِر (فا) جمع أَسْفَار و
سَفْر و سَفَرَة و سُفَّار و جمع الجمع أَسَافِر: مسافر۔
السَافِرَة جمع سَوَافِر: مسافرین کہتے ہیں۔ كثرت
السافرة هنا، قومٌ سَافِرة: یعنی یہاں مسافروں
کی کثرت ہے اور مسافر لوگ مراد جو لوگ سفر پر ہیں۔
اس کی ضد حضر ہے۔ السَفَّارة: مسافر لوگ۔
المِسْفَرم مِسْفَرَة و المِسْفَار: بہت سفر کرنے والا،
سفروں کی طاقت رکھنے والا۔ المَسْفُور: سفر سے تھکا
ہوا، درماندہ۔
۲۔ سَفَرَ - سُفُورًا تِ المرأةُ: عورت کا اپنا چہرہ کھولنا۔
سافر: کھلے چہرے والی عورت۔ ___ الصبحُ: صبح کا
روشن ہونا۔ ۔ تِ الحربُ: لڑائی کا ختم ہونا۔ ___
سَفْرًا البيتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ ت الريحُ
الغَيْمَ: ہوا کا بادل کو اڑا لے جانا۔ ___ الشيءَ: کو
جدا جدا کرنا، پراگندہ کرنا۔ سَفَّرَ النارَ: آگ لگانا،
جلانا، بھڑکانا۔ سَافَرَتْ عنه الحمّى: بخار کا کسی کو
چھوڑ دینا، کسی کا بخار اترنا۔ اَسْفَرَ: چہرہ کھولنا۔
الصبحُ: صبح کا روشن ہونا۔ ___ الوجهُ: چہرہ کا حسین
ہونا، چمکنا۔ ___ تِ الحربُ: جنگ کا تیز ہونا۔ ___
مُقَدَّمُ رَاسِهِ: چندیا کے بال جھڑنا۔ ___ الشَجرُ:
درخت کے پتے گرنا۔ تَسَفَّرَ المرأةَ: عورت سے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چہرہ کھولنے کو کہنا۔ ـــ شأ من هاجة: کچھ حاصل کرنا۔ اِنسَفَرَ شعرُهُ عن رأسِه: کے سر سے بال جھڑنا۔ ـ الغیمُ: بادلوں کا پراگندہ ہونا چھٹ جانا۔ اِستَسفَرَ المرأةَ: عورت سے چہرہ کھولنے کو کہنا۔ السَفَر جمع أسفار: غروب آفتاب کے بعد کا وقت۔ السُفارة: جھاڑو سے جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ۔ السَفِير: گرے ہوئے بال یا پتے۔ السَفِيرَة جمع سَفَائر: سونے یا چاندی کا ہار۔ المِسْفَرَة جمع مَسَافِر: جھاڑو۔ مَسَافِرُ الوجه: چہرے کے کھلے ہوئے حصے کہتے ہیں: مـا أحسن مَسْفَرَ وَجهِهِ و مَسَافِر وجوههم: اس کے یا ان کے چہروں کے کھلے حصے کتنے خوبصورت ہیں۔

۳۔ سَفَرَ ـُ سَفْرًا و سَفَارَةً و سِفَارَةً بین القوم: لوگوں میں صلح کرانا۔ سفیر جمع سُفَراء: صلح کرانے والا۔ السَفِير جمع سُفَراء: لوگوں میں صلح کرانے والا قاصد ایلچی۔ ایک حکومت کی طرف سے دوسری حکومت میں نمائندہ سفیر۔ السَفَارة و السِفَارة: سفیر کا عہدہ و منصب، لوگوں میں صلح کرانا۔

۴۔ سَفَرَ ـُ سَفْرًا البعیرَ: اونٹ کو نکیل ڈالنا، کو کاشت کا نچلا حصہ چرانا۔ سَفَّرَ البعیرَ: اونٹ کو نکیل ڈالنا۔ أسفَرَ البعیرَ: بمعنی سَفَرَ البعیر۔ تَسَفَّرَ الجلدُ: کھال کا متاثر ہونا۔ السِفَار و السفارة جمع أَسْفِرة و سُفُر و سفائِر: نکیل۔ السَفر جمع سُفُور (مص): انسانی جسم کا داغ۔ السَفِير: کھیتی کا نچلا حصہ۔

۵۔ سَفَرَ ـُ سَفْرًا الکتابَ: کتاب لکھنا۔ السِفر جمع أَسْفَار: بڑی کتاب، تورات کا ایک جزء۔ السَافِر جمع سَفَرَة: لکھنے والا۔ السَافِرَة: سَافِر کا مونث۔

۶۔ السَفُّور (ح): خارپشت مچھلی۔

۷۔ السَفَرجَل (ن): بہی۔

○ سَفَرت ـِ سُفُورًا عن وجهها: عورت کا چہرے سے نقاب ہٹانا، اپنے آپ کو بے نقاب کرنا۔ سَفَرَ ـِ سَفْرًا: (طلوع فجر، نور کے تڑکے، سویرے کا) روشن ہونا، دمکنا۔ سَفَرَ ہ: کو بے نقاب کرنا، سے ڈھکنا اٹھانا، کو فاش کرنا، افشا کرنا، ظاہر کرنا۔ سَفَّرَه: کو سفر پر روانہ کرنا، کو چھوڑنے پر مجبور کرنا، کو دور بھیجنا۔ سفَّرہ: کو بھیجنا، ارسال کرنا۔ سفَّرہ: (مسافروں کو) جہاز پر سوار کرنا۔ سَافَرَ: سفر کرنا، تفریحی سفر کرنا، سفر پر روانہ ہونا۔ أسفَرَ: (سویرے یا چہرہ وغیرہ کا) چمکنا، دمکنا۔ اسفر (عن کچھ): ظاہر کرنا، بے نقاب کرنا، سے نقاب اٹھانا، پردہ ہٹانا، ڈھکن ہٹانا۔ أسفَرَ (عن کچھ): حاصل کرنا، پر منتج ہونا، لانا، لے لینا۔ أسفَرَ (عن پر): انجام پذیر ہونا، ختم ہونا۔ أسفَرَ (عن کا): انجام ہونا، کا نتیجہ ہونا۔ انسَفَرَ: (گرد و غبار، بادل) اٹھنا، غائب ہونا، چھٹنا۔ السَّفَر: سفر کرنے والے، مسافرین۔ سِفر جمع أسفار: کتاب (خصوصاً انجیل کا کوئی جزء) سَفَر: روانگی۔ جمع أسفار: سفر، سیاحت، تفریحی سفر، دورہ۔ سفرة جمع سَفَرات: مندرجہ بالا معنے۔ سَفَرِيَة: ایضاً، روانگی۔ سُفرة جمع سُفَر: کھانے کی میز۔ سُفَرَجی جمع سُفرَجية: ویٹر (کھانے لانے والا) سٹیوارڈ (Steward) سِفارة: سفارت خانہ۔ سَافِر: بے نقاب، جس کا چہرہ کھلا ہو۔

سفس: ۱۔ السِفْسِير جمع سَفَاسِرة و سَفَاسِير: دلال، خادم، منتظم امور، ماہر اصوات، ظریف، ماہر لوہار، داروغہ۔

۲۔ السَفْسَطه و السِفسِطة جمع سفسطات: باطل استدلال و قیاس یا وہ چیز جس کا مقصد مغالطہ آفرینی ہو۔ سفسطه، سوسطائیت: مغالطہ آمیزی۔ سَفْسَطِی و سوفسطائی: غلط دلائل سے دھوکا دینے والا (Sophist)۔ السُوفِسْطائِيه: محسوسات و بدیہیات کا منکر فرقہ۔

۳۔ سَفْسَقَ الطائرُ: پرندہ کا پیٹ کرنا۔ السَفْسَقَة و السِفْسِقَة من السیف جمع سَفَاسِق: تلوار کا جوہر۔ طریقٌ واضح السَفَاسِق: واضح نشانات والا راستہ۔ السُفَاسِق: ہر لمبی یا پھیلی ہوئی چیز۔

سفط: سَفَطَ ـُ سَفْطًا السمكةَ: مچھلی کا چھلکا اتارنا۔ عام بول چال میں کہتے ہیں۔ سفط حقه: اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ السَفَط جمع أسفاط: مچھلی کا چھلکا (Scales of a Fish) السَفِيط: درخت سے گری ہوئی سبز کھجور۔

۲۔ سَفُطَ ـُ سَفَاطَةً: پاک نفس اور سخی ہونا۔ صفت سفیط۔ (هو سَفِيط النفس: وہ پاک دل ہے۔ کمینہ و ناکارہ (ضد)۔

۳۔ سَفَّطَ الحوضَ: حوض کی درستی کرنا اور اسے اونچا کرنا۔

۴۔ تَسَفَّطَ ہ: کو تھوڑا تھوڑا پینا۔ اِستَفَطَ الشيءَ: سب لے لینا، پی جانا۔ السَفَط جمع أسفاط: ٹوکری، جامہ دان۔

۵۔ السَفَّاط: ٹوکری بنانے والا۔ سُفَاطَةُ البیت: گھر کا سامان۔ مُسَفَّطُ الرأس: بڑے سر والا۔

سفع: ۱۔ سَفَعَ ـَ سَفْعًا ہ: کو مارنا اور طمانچے لگانا۔ الشيءَ: پر نشان لگانا۔ ـــ بناصیته: کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچنا۔ سَافَعَهُ: ایک دوسرے کو مارنا، طمانچے لگانا، ہٹانا، دھتکارنا، سینہ سے لگانا۔ ایک دوسرے سے لڑنا۔

۲۔ سَفَعَ ـَ سَفْعًا تِ السَمُومُ وجهَهُ: گرم ہوا کا کسی کے چہرے کو جھلس کر دگرگوں کر دینا۔ سَفِعَ ـَ سَفَعًا: سرخی مائل سیاہ ہونا۔ تَسَفَّعَ بالنار: آگ سینکنا، تاپنا۔ اِستَسفَعَ الرجلُ: مرد کا اپنے کپڑے پہننا۔ اُستُفِعَ لونُهُ: کا خوف وغیرہ سے رنگ متغیر ہونا۔ السُفْع: اندرائن کا بیج۔ السُفعَة: اندرائن کا بیج، سرخی مائل سیاہی۔ السَفْع (مص) جمع سُفُوع: رنگا ہوا کپڑا، کپڑا۔ السَفَع: سرخی مائل سیاہی۔ سُفَعُ الشمسِ: آفتاب کے سیاہ داغ۔ الثَّور: بیل کے چہرے پر سیاہ نقطے۔ السَوافِع (مفرد سافِعَة): لو کی لپٹیں۔ الأَسْفَع م سَفْعَاء جمع سُفْع: سرخی مائل سیاہ رنگ والا (ح) جنگلی بیل، باز، شکرا، شاہین۔ ثورٌ مُسَفَّع: بیل جس کے چہرے پر سیاہ نقطے ہوں۔ کَمِيٌّ مُسَفَّع: کالا ہتھیار بند (لوہے پر رنگ لگنے کی وجہ سے) مَسْفُوع العین: دھنسی ہوئی آنکھوں والا۔

○ سَفَعَ ـَ سَفْعًا ہ: (گرم ہوا وغیرہ کا) کسی کو جھلسنا، جلانا ـــ ہ: کی کھال / جلد وغیرہ کو جھلسنا۔ سَفَعَ: (پرندہ کا) اپنے پر پھڑپھڑانا ـــ ہ: کو ہاتھ سے مارنا، ضرب لگانا، تھپڑ مارنا ـــ ہ: (طوفان کا) کسی چیز کو ادھر ادھر لے جانا۔ سَفع: جلی ہوئی جگہ۔ سَفْعَة جمع سُفَع: کالا دھبہ، سیاہ داغ یا نشان۔

سفق: ۱۔ سَفَقَ ـِ سَفْقًاهُ: کو طمانچہ مارنا۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔ أَسْفَقَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ اِنسَفَقَ البابُ: دروازہ بند ہونا۔ السَفقَة: طمانچہ، تھپڑ، کہتے ہیں۔ اعطاه سفقة یمینه: اس نے اس کی بیعت کرلی۔ السَفِيقَة: سونے وغیرہ کا ورق۔

۲۔ سَفُقَ ـُ سَفَاقَةً الثوبُ: کپڑے کا گف ہونا، گاڑھا ہونا۔ أَسْفَقَ الحائكُ الثوبَ: جولاہے کا کپڑے کو گاڑھا بننا۔ السَفِيق: گاڑھا۔ رجلٌ سَفِيقُ الوجه: بے حیا آدمی۔ السَفِيقَة: لکڑی کا چوڑا اور لمبا ٹکڑا جس پر چٹائیاں وغیرہ لپیٹی جاتی ہیں۔

سفك: سَفَكَ ـِ سَفْكًا الماءَ او الدمَ: پانی یا خون بہانا، گرانا۔ الکلامَ: بہت بولنا۔ سَفَّكَهُ: کو سُفكة: (تھوڑی سی خوراک جو ناشتہ سے پہلے کھائی جاتی ہے) پیش کرنا۔ انسَفَكَ: بہنا، گرنا۔ السُفكة: ناشتہ سے پہلے کھائی جانے والی تھوڑی سی خوراک۔ السَفُوك و السَفَّاك: بہت خون گرانے والا۔ کہتے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہیں۔ ھو سفوك او سفاك بالكلام : یعنی وہ بڑا جھوٹا ہے۔ السفیك : گرایا ہوا، بہایا ہوا، (پانی، خون)۔ رجل مِسفك : بڑبولا، باتونی۔

○ سفك ـِ ـُ (الدم) : خون بہانا، گرانا۔ تسافك : ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اِنسفك : بہنا، گرنا (خون کا) سَفْكُ الدماء: قتل وغارت۔ سفّاك: خون بہانے یا گرانے والا

سفل: سفل ـُ وسفِل ـُ سفولاً و سفالاً : نیچا ہونا، پست ہونا، حقیر ہونا، اسم فاعل۔ سافل جمع سافلون و سفلة و سُفّل و سُفّال و سُفلان : نیچا، پست، منکسر المزاج، عاجز، کمینہ، فرومایہ، ذلیل۔ سفل ـُ سُفولاً و سفالاً : نیچا ہونا، پست ہونا۔ سفلاً و سُفلاً و سفالاً فی علمه او خلقه : علم اور اخلاق میں ادنی یا گھٹیا ہونا۔ ـــ سفولاً فی الشیء : کے اونچے حصہ سے اس کے نیچے کے حصے میں اترنا۔ سفّل ہٗ : کو نیچے اتارنا۔ سافل ہٗ : سے کمینہ حرکات میں مقابلہ کرنا۔ تسفّل : رفتہ رفتہ نیچے آنا۔ اِستفل: اترنا۔ السِفل والسُفل : نچائی، پستی۔ السِفلة: سب سے نچلا حصہ۔ سِفلة و سَفِلة القوم : قوم میں ادنی درجہ کے لوگ، گھٹیا لوگ، اراذل۔ السُفالة: کمینگی۔ سُفالة کلّ شیء: نچلا حصہ، تہہ، پیندا۔ سُفالةُ الریح : ہوا کا نیچے کی طرف چلنا۔ السَفالة: کمینگی، خساست۔ السافلة : دُبر چوتڑ۔ من الرمح: نیزے کا نچلا حصہ کہتے ہیں۔ ماعالیة الرمح کسافلته : یعنی نیزے کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کے حصہ جیسا نہیں۔ سافلة النهر : ندی کا نشیبی حصہ۔ کہتے ہیں۔ مررتُ بعالیة النهر و سافلته : میں ندی کے اوپر اور نیچے کے حصہ سے گزرا۔ الأسفل جمع أسافل : سب سے نیچا، نچلا حصہ کہتے ہیں۔ رددناہ أسفل سافلین : ہم نے اسے انتہائی پست حالت میں لوٹا دیا اور پست سے پست تر کر دیا۔ السُفلیّ والسُفلیة والسُفول : نچلا، پستی کا اور نچلا۔ السَفیل بمعنی سافل: کمبخت۔ المَسفلة: نچلا حصہ، آپ کہتے ہیں۔ أنا أسکن فی معلاة المدینة و فلانٌ فی مسفلتها : میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں شخص اس کے نشیبی حصہ میں۔

○ سفل ـُ سُفولاً و سفالاً و سفِل ـَ سفلاً : نیچا یا نشیبی ہونا۔ ـــ ہ : کے نیچے ہونا۔ ـــ : نیچے کی طرف مڑنا۔ سفُل ـُ سُفالةً و سفِل ـُ سُفلاً: کمینہ، ذلیل، فرومایہ ہونا۔ تسفّل : اپنے آپ کی تذلیل کرنا، پستی میں گرنا، بد سے بدتر ہونا، کمینگی کرنا۔ سُفل : کسی چیز کا سب سے نیچا حصہ۔ پیندا۔ سُفلی نچلا تر، تہ پر، نیچا۔ سِفلة الناس : کمینے رذیل لوگ، اراذل۔ سَفالة : پستی، کمینگی، رسوائی، کھلی بے عزتی، فضیحت، فرومائیگی ذلت۔ جمع سفالات۔ سُفالة: سب سے نچلا حصہ اسفل م سُفلی جمع أسافل: زیادہ نیچا، نچلا تر، نچلا ترین، نچلا تر یا نچلا ترین حصہ، پیندا، تہہ۔ أسفلَ : کے نیچے۔ الارض السُفلی: نشیبی دنیا۔

سفن: ا۔ سفن ـُ سُفناتِ الریح : ہوا کا سطح زمین پر چلنا۔ وـ ـِ سفناً الشیء : کو چھینا، کا چھلکا اتارنا۔ سفِن ـَ سفناتِ الریح : ہوا کا سطح زمین پر چلنا۔ سفّن ہٗ : کو تراشنا اور نرم کرنا۔ السَفَن: چوب تراشی کا آلہ۔ ریگمال (Sand paper) السافنة والسفون من الریاح جمع سوافن : سطح زمین پر چلنے والی ہوا۔ السفین: لکڑی پھاڑنے کی کیل یا پھانا ۔ (یونانی لفظ) السفینة جمع سُفُن و سفین و سفائن : جہاز، کشتی (Boat, vessel, ship) السفّان: جہاز ساز، کشتی ساز۔ السِفانة: جہاز سازی، کشتی سازی۔ art or trad of ship building جہاز یا کشتی بنانے کا فن یا تجارت۔ سفائن البرّ : اونٹ۔ (جمع) المِسفن: چوب تراشی کا اوزار۔

۲۔ السَفَن : کھردری کھال جس کو تلواروں کے قبضوں پر لگاتے ہیں۔ السافین (ع ا) : ریڑھ کی ہڈی کی اندرونی رگ جس سے دل کی شریانیں جڑی ہوتی ہیں۔ السَفّانة: موتی۔

○ سفلت : سڑک پر اسفالٹ بچھانا یا اس پر Asphclt کا کوٹ کرنا۔ (اسفالٹ کولتار یا لک جس میں ریت ملائی گئی ہو) اسفلت : (asphalt) سفلقة: اسفنج سے دھونا، پونچھنا یا صاف کرنا۔ (sponging) سِفلاق: طفیلی، مفت خورا۔ (sponger) سفن: کھردری کھال جو پالش کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ سفینة مِدفعیّة: گن بوٹ gun-boat سفینة تعلیم یا سفینة تدریس: تربیتی جہاز (Training ship)

۳۔ سفنج : جلدی کرنا۔ و۔ لفلان النقد : کو جلد نقدی دینا۔ السفنّج م سفنّجة: جلدی کرنے والا۔ لمبا۔ السفنج والسِفنج والسُفنج : اسفنج اسپنج (یونانی لفظ Sponge)

۴۔ الاِسفنط والاِسفنط : خوشبودار رس، خاص طور پر انگور کا۔

سفا [illegible]

سے سبقت لے جانا۔ کو بے وقوفی پر آمادہ کرنا، یا اسے بیوقوف کہنا۔ ـــ نفسهُ : اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔ ـــ نصیبهُ : اپنا حصہ بھولنا۔ سفِه ـَ سَفهاً : بیوقوف ہونا، جاہل ہونا، بری عادت والا ہونا۔ سفیه جمع سِفاه و سُفهاء م سفیهة جمع سِفاه و سُفّه و سفائه و سفیهات : بے وقوف، جاہل، بد خلق۔ ـــ نصیبهُ : اپنا حصہ بھول جانا۔ سفُه ـُ سفاهةً و سفاهاً : جاہل ہونا، بیوقوف ہونا۔ سفّه الرجلَ : کو بیوقوف بنانا یا بیوقوف کہنا۔ کہتے ہیں۔ سفّه الجهلُ حِلمهُ : جہالت نے اسے بیوقوف بنانا۔ سافههٗ : کو گالی گلوچ کرنا۔ تسفّه الرجلُ : بتکلف بے وقوف بننا۔ و۔ تِ الریحُ : ہوا کا مضطرب ہونا۔ ت الریحُ الغصونَ: ہوا کا ٹہنیوں کو جھکانا۔ فلاناً عن ماله: کا مال ٹھگ لینا۔ تسافه علینا: وہ ہمارے سامنے جھوٹ موٹ بیوقوف بن گیا۔ السفه (مص): جہالت، بردباری سے تہی دامنی، بد اخلاقی (اس کی اصل خفت اور اضطراب ہے) السافِه (فا) : احمق، بے وقوف۔

۲۔ سفِه ـَ سفهاتِ الطعنةُ : گھاؤ سے فوراً خون نکل کر کم ہو جانا۔ ـــ الشرابَ: شراب بہت پینا۔ سافهَ الدنَّ: مٹکے کے پاس بیٹھ کر گھڑی گھڑی پینا۔ ـــ الشرابَ: بے اندازہ شراب پینا۔ أسفهَ اللّٰهُ فلاناً الماءَ: بہت پلانا اور سیر نہ ہونے دینا۔ السافِه (فا): بہت پیاسا۔ واد مُسفّه : بھری ہوئی وادی۔ المَسفهة: بہت پیاس لگانے والی خوراک۔ طعام مَسفهة: بہت پیاس لگانے والا کھانا۔

○ سفِه ـَ سَفهاً و سفُه ـُ سفاهةً : بے وقوف ہونا، احمق ہونا، سادہ لوح ہونا، کوتاہ اندیش ہونا، گستاخ ہونا۔ سفّه ہٗ : کو احمق یا احمقانہ کہنا۔ کو قانونی طور پر نا اہل قرار دینا۔ ہ : کو حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا۔ سفّه نفسه : اپنے آپ کو بے وقوف بنانا۔ سفّه وجههُ : کو بے نقاب کرنا، کی قلعی کھولنا، کو بے وقوف بنانا، کو بدنام کرنا، ذلیل کرنا۔ تسافه : جھوٹ موٹ کا بے وقوف بننا۔ سفه : بے وقوفی، حماقت، سادہ لوحی، گستاخی، بے شرمی، بے حیائی۔ سفیه : (اسلامی قانون میں) نااہل۔ سفاهة : بے وقوفی، حماقت، سادہ لوحی، گستاخی، بے شرمی۔

سفا: ا۔ سفا ـُ سُفوًّا : تیز چلنا یا اڑنا۔ سفِی ـَ سفاً و سفاءً : کی پیشانی پر کم بال ہونا۔ أسفی ت الناقةُ: اونٹنی کا لاغر ہونا۔ تِ الریحُ: ہوا کا چلنا۔ السفا: پیشانی کے بالوں کی کمی، خاک۔ دبلا پن۔ بغلٌ أسفی م سفواء: پیشانی پر کم بالوں والا خچر، تیز

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رفتار۔ ریحٌ سَفْواء :تیز رفتار ہوا۔

۲۔ سَفِيَ ۔سَفًا و سَفَاءً الرجلُ :بےوقوف ہونا۔ سَفِي :بےوقوف، سادہ لوح۔ أَسْفَى :بیوقوف ہونا۔ ــ فلانًا : کوطیش پر آمادہ کرنا یا اکسانا۔ ــ به :سے بدسلوکی کرنا۔ سَافَى الرجُلَ :کوگالی گلوچ کرنا، کوگالی دینا۔

۳۔ سَفِي ۔سَفاً و سَفَاءً ا ت يدُهُ :کاہاتھ پھٹنا۔

۴۔ سَافَى الرجُلَ :کاعلاج کرنا۔ السِفاء :دوا۔

۵۔ أَسْفَى الزرعُ :غلہ کی بالی کے کناروں کا سخت ہونا۔ السَفَاواحد سَفَاة :ہر کانٹے دار درخت۔ ــ من السنبل :بالیوں کے کانٹے۔

سفى: سفَى ۔ِسَفْيًا و أَسْفَى إسفاءً تِ الريحُ الترابَ :ہوا کا خاک اڑانا یا اٹھالے جانا۔ سافيةٌ جمع سَافِيات و سوَافٍ :خاک اڑنے یا اٹھالے جانے والی ہوا۔ سَفِيَ ۔سَفْيًا الترابُ :خاک اڑنا یا بکھرنا۔ السَافِيَاء :غبار۔ السَفَى :جس کو ہوا اڑائے۔ السَفِيّ :پراگندہ غبار۔ الأَسْفَى من الخيل م سَفْياء جمع سُفْيٌ :پیشانی کے یا کم بالوں والا گھوڑا۔ المُسْفِي :چغل خور۔

◌ سَفَى ۔ِسَفْيًا و أَسْفَى ه :(ہوا کا) غبار کو اڑا کر بکھیرنا۔ سَافِيَاء :غبار۔ مَسْفًى :جسے تیز گھمایا گیا ہو۔ کھلونا، کھیل تماشا (مجازا)

سفين :پھانا، فانا، پچر۔

سق: سَقْسَقَ الطائرُ :پرندہ کا بیٹ کرنا۔

◌ سَقْسَقَة :پرندوں کا چہچہانا، چیں چیں کرنا۔

سقب: سَقِبَ ۔سَقَبًا و سُقُوبًا تِ الدارُ : گھر کا نزدیک ہونا۔ سَاقَبَ ت البيوتُ :گھروں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا، پاس پاس ہونا۔ أَسْقَبَ تِ الدارُ :گھر کا قریب ہونا۔ ــ الدارَ :گھر کو قریب کرنا۔ مَنزِلٌ سَقَبٌ :قریب کی منزل۔ السَاقِب (فا) :قریب، دور (ضد)۔

۲۔ أَسْقَبَ تِ الناقةُ :اونٹنی کا زیادہ تر نر بچے جننا۔ السَقْب جمع أَسْقُب و سِقَابٌ و سُقُوبٌ و سُقبان :اونٹنی کا وہ بچہ جس کو اس نے ابھی جنا ہو۔ نوزائیدہ بچہ۔ اَذَلُّ من السقبان بين الحلائب :دودھ دینے والی اونٹنیوں کے درمیان نوزائدہ بچوں سے زیادہ ذلیل۔ المِسْقَب و المِسقَاب :نوزائیدہ بچہ کی ماں۔ المِسقاب :وہ مادہ جو عادتاً نر بچے جنے۔

۳۔ السَقْبُ جمع سِقبان و السَقِيبَة :خیمہ کا ستون۔ سرسبز، موٹی اور لمبی شاخ۔

سقد: سَقَدَ ۔ِسَقْدًا و سَقَّدَ و أَسْقَدَ الفرسَ :گھوڑے کو دبلا کرنا۔ السُقْدُدُ جمع سُقَد و السُقَيدة جمع سُقَيْدات (ح): سرخ رنگ کا ایک پرندہ۔

سقر :۱۔ سَقَرَ ۔ُسَقْرًا تْهُ الشمسُ :سورج کا کسی کو جھلسنا اور تپش سے اس کے دماغ کو تکلیف دینا۔ سَقَرُ :جہنم کا اسم علم ہے اور غیر منصرف ہے۔ السَقْرَة جمع سَقَرات: سورج کی تپش۔ السَاقُور :گرمی، جانور کو داغنے کا لوہا۔

۲۔ أَسْقَرَتِ النخلةُ : کھجور کے درخت سے شیرہ بہنا۔ السَقْر :راب، شیرہ۔ نخلةٌ مِسقارٌ :کھجور کا درخت جس سے شیرہ بہتا ہے۔

۳۔ السَقر (ح) شکرا۔ السُقَر : کہتے ہیں۔ جاء بالسُقَر و البُقَر و ببنات غِيرَ :اس نے صریح جھوٹ بات کی۔ السَقَّار جمع سَقَّارة :غیر مستحق پر بہت لعنت بھیجنے والا۔ کافر۔

◌ سُقراط : سقراط (Socrates)

سقط :۱۔ سَقَطَ ۔ُسُقُوطًا و مَسْقَطًا :زمین پر گرنا کہتے ہیں۔ سَقَط من عيني :وہ میری نظر سے گر گیا یعنی میرے نزدیک حقیر ہوگیا۔ الحرُّ :گرمی پڑنا۔ ــ الحرُّ عنّا : سے گرمی دور ہونا (ضد) ــ النجمُ: ستارہ کا غروب ہونا، غائب ہونا۔ ــ على ضالته: کھوئی ہوئی چیز کی جگہ دریافت کرنا اور پانا۔ على الخبير سقطتَ :تم واقف کار کے پاس پہنچے۔ حيثما سَقَط لَقَط :یہ ضرب المثل عیار شخص کے لئے بیان کی جاتی ہے۔ ــ القومُ إليَّ :لوگ میرے پاس آئے۔ الولدُ من بطن امه :بچہ کا ماں کے پیٹ سے نکلنا۔ سَاقَطَ سِقاطًا و مُسَاقَطَةً ہ :کوگرانا یا مسلسل گرانا۔ ــ ہُ الحديثَ :باری باری سے بات کرنا۔ أَسْقَطَ ہُ : کوگرانا۔ ــ تِ المرأةُ السِقْطَ :عورت کا ادھورا بچہ گرانا۔ ــ ن من ك: (ن کو ک سے) مجرا کرنا، تفریق کرنا، منفی کرنا۔ اسقط له بالكلام :کوگالی دینا۔ تَسَقَّطَ :کی خطاؤں کو تلاش کرنا۔ ــ الخبرَ :تھوڑی تھوڑی کر کے حاصل کرنا۔ تَسَاقَط و اسَّاقَطَ الشيءُ :پے در پے گرنا۔ السُقْط : ناتمام بچہ جو اپنی میعاد سے پہلے گر جائے یا مردہ پیدا ہو۔ السَقْط : بمعنی السُقْط :شبنم یا برف۔ لئیم۔ السَقْطَة : زور سے گرنا، لغزش۔ السِقط بمعنی السُقْط :پرندے کا بازو کہتے ہیں۔ رفع الطائرُ سِقْطَيه :پرندے نے اپنے بازو اٹھائے۔ بادل کا کنارہ جو سطح زمین سے لگا ہوا دکھائی دے، خیمہ کا گوشہ۔ السَقَط جمع أَسْقَاط: ہر بے خیر چیز۔ ردی سامان، فضیحت و شرمندگی۔ الساقط جمع سُقَّاط و سِقَاط م سَاقِطة :لئیم، کمینہ

السَاقِطة جمع سَوَاقِط :کمینہ، ناقص العقل، پکنے سے پہلے گر جانے والا پھل۔ السِقاط (جمع ساقط کی) لغزش، پکنے سے پہلے گر جانے والا پھل، پرندہ کا بازو۔ السُقاط و السُقاطة : گری ہوئی چیز۔ السَقُوط: بمعنی ساقط۔ السَقِيط :گری ہوئی برف وغیرہ۔ م سَقيطة :احمق، ناقص العقل۔ السَقَّاط :بہت گرنے والا۔ بہت تیز تلوار۔ و السَقَطيّ :ردی سامان بیچنے والا، کباڑی۔ السَقَّاطَة :سقاط کا مونث جس کے معنی بہت گرنے والا ہے۔ سَقَّاطَة الباب :دروازہ کی بلی۔ المَسْقَط جمع مَسَاقِط :گرنے کی جگہ۔ المَسْقَطَة :گرنے کا سبب۔ المَسقِط جمع مَسَاقِط: گرنے کی جگہ، پرندہ کا بازو۔ مَسْقِطُ رأسِ الرجُل: جائے پیدائش۔ مُسْقِطَةُ الاحبال :بڑی مصیبت۔ الأُمُّ المِسْقَاط :قبل از ولادت بچہ گرانے کی عادت رکھنے والی ماں۔

۲۔ سَقَطَ ۔ُسُقُوطًا و مَسْقَطًا في الكلام :بات میں غلطی کرنا۔ غلط بات کرنا۔ ــ عليه الأمرُ :کوضائع کرنا۔ ــ في يده :نادم ہونا۔ سُقِطَ في يده :لغزش کرنا، غلطی کرنا، نادم ہونا، حیران ہونا۔ اَسْقَطَ الرجُلَ : کے ساتھ وہ کچھ کرنا جس سے وہ غلطی کرے، جھوٹ بولے یا اپنا راز ظاہر کردے کہتے ہیں۔ ماأَسقط في كلمة :اس نے اپنی گفتگو میں غلطی نہیں کی۔ اُسْقِطَ في يده :نادم ہونا۔ السَقَط جمع أَسْقَاط :لکھنے یا بولنے یا حساب میں غلطی۔

۳۔ سَاقَط سِقاطًا و مُساقَطَةً الفرسُ الخيلَ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں پر سبقت کرنا۔ ــ الفرسُ العَدْوَ :گھوڑے کا سست رفتار سے دوڑنا۔

◌ سَقَطَ ۔ُسُقُوطًا و مَسْقَطًا :گرنا، (لڑائی میں) مارا جانا، نیچے گرنا، الٹ کر گرنا، ٹھوکر کھا کر گرنا، پھسل پڑنا۔ (بالوں کا) گرنا۔ على ب :سے اتفاقاً ملنا یا کو اتفاقاً پانا، کو پانا، کے ہاتھ لگنا (کچھ) ــ الى ب :کے پاس آنا، پہنچنا، ــ :زوال یا انحطاط پذیر ہونا، (معیار کا) گرنا، کالعدم ہونا، منسوخ ہونا، رہ جانا، مفقود ہونا۔ من ب :سے بچ نکلنا۔ من: کی یادداشت سے یا ذہن سے نکل جانا۔ لِيَسْقُطْ، فَلْيَسْقُطْ :مردہ باد۔ سقط به :کسی کو یا کسی چیز کو اتارنا۔ سقط اليهم عنه الله :ان کے پاس اس کی طرف سے وعدہ تھا کہ وہ۔ سقط رأسُهُ في :وہ وہاں پیدا ہوا، اس کی جائے پیدائش وہاں تھی۔ سقط من العُضْوِيَة :کی رکنیت سے خارج ہونا، کارکن نہ رہنا۔ سقوط من عينه :کے نزدیک اپنی عزت کھو دینا۔ سقط في الإمتحان :امتحان میں فیل ہونا۔ سُقِط

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فی یدہ :ہکابکارہ جانا، حیران وششدر ہونا۔ اسقط ہ فی الامتحان :کوامتحان میں فیل کرنا۔ اسقط ہ: (طیارہ کو) مار گرانا۔ اَسْقَطَ (ہ عدد): منہا کرنا، تفریق کرنا۔ اسقط (ہ من) : کو سے خارج کرنا۔ اسقطت :کا بچہ ضائع ہوجانا، کا اسقاط ہونا۔ اسقطہ من الجنسیۃ :کو اس کی شہریت سے محروم کرنا۔ اسقط حقہ فی :کسی چیز میں اپنے حق سے محروم ہوجانا، کسی چیز پر اپنے دعویٰ سے دستکش ہوجانا۔ اسقط دعوی :شکایت کالعدم قرار دینا، شکایت واپس لینا۔ اُسقط فی یدہ : بمعنی سقط فی یدہ تَسَقَّطَ ہ من :سے کچھ آہستہ آہستہ، معلوم کرنا، کے بارے میں سے معلومات اکٹھی کرنا۔ ــــ :ردی اشیاء تلاش کرنا۔ تَسقَّط الاخبار :معلومات اکٹھی کرنا۔ تَساقط :گر پڑنا، نیچے آجانا، دھڑام سے گرنا، دفعتًا گرنا۔ (مکان کا) گر جانا، پے در پے یا بتدریج گرنا، (بال) گرنا۔ ــــ الی :ایک ایک کرکے تک پہنچنا۔ من :سے گرنا، ٹپکتا رہنا۔ تَساقط علی نفسہ : نڈھال ہونا، صحت کا گرنا جواب دینا۔ تَساقَطَ خطاًمًا: ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ختم ہونا۔

سَقَط : شبنم، اوس۔ سِقط :حمل کے 8 سے زائد ہفتے بعد ضائع ہو جانے والا بچہ۔ (miscarriedfetus) سَقْط و سِقط و سُقط :چقماق سے اڑ کر نکلنے والے شرارے۔ سَقَط جمع اَسْقاط : بے کار چیز، فضلہ، بیکار گوشت (پھیپھڑے، اوجھڑی وغیرہ، دل گردے کلیجی، ردی چیز، کاٹ کباڑ، ردی مال) سقط المطاع :ردی، ناکارہ مال۔ سَقَطی :کباڑی، چیتھڑے فروش۔ سَقْطۃ جمع سَقَطات : گرنا، بری طرح گرنا، فروگذاشت، غلطی، لغزش۔ سقطات الطباعۃ :طباعت کی غلطیاں، کتابت کی غلطیاں، سقوط : گرنا، ہوائی جہاز کا گر پڑنا یا حادثہ ہونا۔ زوال، انحطاط، صحت کا گرنا، جواب دینا، مشین کا ٹوٹ جانا (حق) کی تفویض) لغزش۔ سقوط الشعر :بالوں کا گرنا۔ سقوط الامطار :بارش۔ سَقیط :اولا، ژالہ۔ مَسْقَط و مَسْقِط جمع مَساقط : وہ جگہ جہاں کوئی گرتی ہوئی چیز اترے، آبشار۔ مُسْقط افقی :گراؤنڈ پلان، افقی قطعہ۔ مسقط راسی :سامنے کا ارتفاع، عمودی حصہ۔ مسقط الرأس :جائے پیدائش، گھر، وطن۔

مَسْقَط :عمان کی بندرگاہ اور دارالحکومت۔

اسقاط :خاتمہ کرنا، شکست دہی، ہوائی (جہاز کا مار) گرانا، اسقاط (حمل) تفریق، منہائی، کٹوتی۔ الاسقاط من الجنسیۃ : تنسیخ شہریت۔ اسقاط قیمۃ الدینار : دینار کی قیمت کم کرنا، دینار کی قیمت کا گراؤ۔ تساقط :بالوں کا گرنا۔ تساقط الثلوج :برف باری (Snow fall) ساقِط جمع سُقاط : گراہوا، گھٹیا، پست، کمینہ، نیچ، ذلیل، شرمناک، بدنام (علاقہ) مشتبہ چال چلن کا، بے عزت، بے وقار، چھوڑا ہوا، بھولا ہوا، مفقود۔ ساقطہ :سکریپ جمع ساقطات :گری ہوئی عورت، طوائف، بیسوا۔ سُقْطراء : سوکوترا۔ (عرب ملک کے جنوب میں ایک جزیرہ)

سقع :ا۔ سَقَعَ -سَقْعًا ہ :کے ساتھ برائی سے پیش آنا، کو سخت سست کہنا، تھپڑ مارنا کہتے ہیں۔ ما ادری این سقع :میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں دفع ہو گیا۔ اُسْتُقِع لونہٗ :کا رنگ متغیر ہونا۔ السُّقع جمع اَسْقاع: زمین کا گوشہ، گھر۔ الأَسْقَع :دشمنوں اور حاسدوں سے دور رہنے والا۔

٢۔ سَقَعَ -سَقْعًا الدیکُ :مرغ کا بانگ دینا، ککڑوں ککڑوں کرنا۔ السِقاع و المِسْقَع :دیکھو اِلصقاع و المِعْقَع۔

٣۔ السِقاع :کپڑے کا ٹکڑا جو اوڑھنی کو تیل سے بچائے۔ برقع، وہ چیز جس سے اونٹنی کی ناک باندھی جائے۔ الأَسْقَع جمع أَساقِع(ح) :سبز پر اور سفید سر کا چڑیا کے مانند پرندہ جو پانی کے قرب ملتا ہے۔ السُوقَعۃ: شوربے میں گوندھی ہوئی روٹی کا بالائی حصہ۔ من الرداء او الخمار او العمامۃ :چادر، دوپٹہ یا پگڑی کی وہ جگہ جو سر کے قریب ہو اور جلد میلی ہو جاتی ہے۔

سَقَعَ -سَقْعًا ہ / ہ :کو تھپڑ مارنا، بجانا۔ مُسَقَّعَۃ: گوشت اور بینگن سے تیار کیا ہوا کھانا۔

سقف :ا۔ سَقَفَ -سَقْفًا البیتَ :گھر پر چھت ڈالنا۔ سَقِفَ -سَقَفًا :کبڑا اور لمبا ہونا۔ أَسْقَط سَقْفاء جمع سُقف : کبڑا اور لمبا۔ ت الرجلُ :ٹانگ کا دائیں پہلو پر جھکا ہونا۔ سَقَفَ البیتَ :گھر پر چھت ڈالنا۔ السَقف من البیت جمع سُقوف :چھت السَقیف جمع سُقُف و سُقُف :چھت السَقیفہ جمع سَقائف :چھت پاٹنے کا تختہ یا پتھر، چھتی ہوئی گزرگاہ، غلام گردش، پناہ گاہ، سونے یا چاندی کے پتلے پترے۔ اونٹ کی پسلی۔ ہَدَمَ السَفر سقائِف للبعیر :سفر نے اونٹ کی پسلیاں توڑ ڈالیں۔ الأَسْقَف :موٹی اور لمبی ہڈیوں والا۔ من الجمال :وہ اونٹ جس پر بال نہ ہوں۔ من الظلمان :ٹیڑھی گردن کا شتر مرغ۔ المُسَقَّف (مفع) :لمبا۔

٢۔ سَقَّفَ بمعنیٰ سقف۔ ذ علیھم :ان پر کسی کو بشپ بنانا۔ ــــ :أسْقَفَ ہٗ علیھم : کو لوگوں پر بشپ بنانا۔ الأُسْقُف و الأُسْقُف جمع أَساقِفَۃ و أَساقِف :بشپ، مطران (یونانی لفظ) الأُسْقُفیۃ :بشپ کا عہدہ، بشپ کی رعیت۔ جسے بشپ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔

○ سقفُ الحلق :تالو تَسقیف :چھت بندی۔ مَسْقُوف :(ب سے) چھتا ہوا، ڈھکا ہوا۔

سقل :ا۔ سَقَلَ -سُقُلاً : کو صیقل کرنا۔ سَقِلَ -سَقَلاً البعیرُ :اونٹ کے کھر میں دائیں جانب کجی ہونا۔ السُقْل :کمر السَقِل من الرجال :پتلی کمر والا۔ من الخیل : پیٹھ پر کم گوشت والا گھوڑا۔ السِقالۃ و الا سْقالۃ و الصقالۃ عند العامۃ :پاڑ Scaffold مچان۔

٢۔ سَقْلَبَ ہٗ : کو پچھاڑنا۔ السَقْلَب : واحد سَقْلَبی جمع سَقالبہ (صَقْلَب بھی کہا جاتا ہے) نئی پود جو یورپ کے ملکوں میں جا کر آباد ہوگئی۔

○ سقلبی جمع سَقالِبہ :وسطی اور مشرقی یورپ کا رہنے والا (Slav) سلاوی۔

سقم : سَقِمَ -و سَقُمَ -سَقَمًا و سُقْمًا و سَقامًا و سَقامَۃً :بیمار ہونا، کی بیماری کا دراز ہونا۔ سَقیم جمع سِقام و سُقَماء :بیمار، دیرینہ مریض۔ سَقَّمَ ہٗ :کو بیمار بنا دینا، کرنا، ڈالنا۔ أَسْقَمَ ہٗ : بمعنی سَقَّمہ۔ الرجلُ :کے گھر والوں کا بیمار ہونا، پر بیماریوں کا ہجوم ہونا۔ السَقَم و السُقْم جمع أَسْقام و السَقام: بیماری، مرض۔ السَقِم و السَقیم :مریض، بیمار۔ کلامٌ سَقیمٌ :غیر درست کلام۔ مکانٌ سَقیم : خوفناک جگہ۔ ھو سقیم الصدر علی اخیہ :وہ اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ المِسْقام :بہت بیمار رہنے والا، اکثر بیمار رہنے والا۔ ارضٌ مَسْقَمَۃٌ :بیماریوں والی زمین، امراض کی آماجگاہ۔

سقن: السَقَنْقُور : دیکھو اِسْقَنْقُور۔

سقی :ا۔ سَقَی -سَقْیًا الرجلَ :کو پانی پلانا، پینے کے لئے پانی دینا، کسی کو سقاک اللّٰہ یا سَقْیًا لک کہنا۔ الثوبُ : کپڑا رنگنا۔ ہٗ اللّٰہُ الغیثَ :اللہ تعالیٰ اس کے لئے بارش بھیجے۔ بطنہٗ :بیماری کی وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہونا۔ سُقِیَ قَلْبُہٗ عداوۃً :کے دل کا دشمنی سے بھر جانا۔ بطنُہٗ :کے پیٹ میں بیماری کا پانی جمع ہو جانا۔ سَقّی تَسْقِیَۃً الرجلَ :کو بہت پانی پلانا۔ کو سَقْیًا لک :کہنا۔ الثوبَ :کپڑے کو بار بار رنگ میں ڈبونا۔ ساقی ہٗ :ایک دوسرے کو پلانا۔ ہٗ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فی ارضہ: کسی کو زمین کی دیکھ بھال کے لئے رکھنا، اس شرط پر کہ اسے غلہ دیا جائے گا۔ اسے شرکۃ المساقاۃ کہتے ہیں: اُسقی اسقاءً الرجلَ: کو پانی پلانا، کو پینے کے لئے پانی دینا، اسے پانی کی جگہ بتانا، اس کے مویشیوں کو پانی دینا یا اس کی زمین کو پانی دینا، اسے سقاک اللہ یا سقیالک کہنا۔ و ۔۔ ۂ اللّٰہُ الغیث: اللہ کا اس کے لئے بارش بھیجنا۔ تسقّی تسقّیاً: سیراب ہونا، تر ہونا۔ تسقّی الصبغَ: رنگ پی جانا، جذب کرنا۔ تساقیا: ایک دوسرے کو پلانا۔ اِستقی اِستقاءً منہ: سے پانی وغیرہ مانگنا۔ و ۔ من النھر: نہر سے پانی لینا۔ اِستَسقی اِستِسقاءً منہ: سے پینے کے لئے کچھ طلب کرنا، مانگنا۔ ۔۔ الرجلُ: قے کرنا، کے پیٹ میں بیماری کا پانی جمع ہونا۔ الرجلَ: سے سقاک اللہ یا سقیًا لک: کہنا السقی جمع اُسقیۃ: بیماری کی وجہ سے پیٹ میں جمع ہوجانے والا پانی۔ سقیًا و سُقیًا لفلان: دعاء کے موقع پر کہتے ہیں، اصل میں سقاہ سقیًا ہے یعنی اللہ اس کو سیراب کرے۔ السِقی جمع اَسقیۃ بمعنی السَقی: پیٹ میں بیماری کی وجہ سے جمع ہونے والا پانی، سیراب کی ہوئی فصل یا زمین، پانی کا حصہ (کہتے ہیں۔ کم سِقیٌ ارضِک تمہاری زمین کے حصہ کا پانی کس قدر ہے) بادل۔ السقاء جمع اَسقیۃ و اَسقیات و اَساقٍ (پانی یا دودھ وغیرہ رکھنے کی) مشک۔ السِقایۃ و السَقایۃ: پانی پلانے کی جگہ، پانی پلانے کا برتن۔ والسُقایۃ: پانی جمع کرنے کا حوض یا ٹنکی السَاقِی: جمع سُقاۃ و ساقون و سُقّاء سُقیٌّ (فا) ساقی۔ الساقیۃ جمع سَواقٍ و ساقیات: ساقی کا مونث، چھوٹی نہر۔ السُقیا: سقی و اِستسقاء کا اسم۔ السَقِیّ واحد سَقِیَّۃ: درخت خرما، بردی کا پودا، دریاؤں کے پانی سے سیراب کیا ہوا، بہت بارش برسانے والا بادل۔ السَقّاء م سقّاءۃ و سقّایۃ: ساقی کا اسم مبالغہ۔ الاستسقاء: بروئے لغت پانی طلب کرنا اور شرعی اصطلاح میں سخت ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعاء کرنا، اطباء کے نزدیک جسم کی بیماری کا نام ہے۔ المُسقی (ز): سیرابی کا وقت۔ المَسقَویّ (ز): دریا کے پانی سے سیراب کی ہوئی کھیتی۔ (المَظْماءِیّ: بارانی کھیتی) المسقاۃ و المُسقاۃ: پانی پلانے کی جگہ۔

۲۔ سقی ۔ سقیًا الرجلَ: پر عیب لگانا، کی غیبت کرنا۔ اُسقی فلانًا: پر عیب لگانا، کی غیبت کرنا۔

○ سقی: آبپاشی، آبیاری، پانی دینا۔ مِسقی جمع مساق: آبپاشی کی نہر۔ مُساقاۃ: شجرکاری، ایک ہی نوع کے باغات یا کھیتوں کے پٹہ پر فصل میں حصہ دینے کا ٹھیکہ جو صرف ایک فصل کے لئے ہو۔ (اسلامی قانون)، استسقاء: بلودھر، استقاء (ایک بیماری کا نام) صلاۃ الاستسقاء: بارش کے لئے نماز۔ استسقائی: بلودھر سے متعلق سساقیۃ جمع سَواق: ہوٹل کی شراب گاہ میں مشروبات پیش کرنے والی Barmaind، چھوٹا دریا، آبپاشی کی ڈگی یا نہر، رہٹ۔

سک: سَکَّ ۔ سَکًّا الباب: دروازہ بند کرنا، دروازے میں لوہے کی بلی لگانا۔ ۔۔ اُذنیہ: کے کانوں کو جڑ سے اکھیڑنا۔ کہتے ہیں: ماسَکَّ سَمعِی مثلُ ذلک الکلام: اس جیسا کلام میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا۔ ۔۔۔ سَکَکًا: چھوٹے کانوں والا ہونا۔ اَسَکّ م سَکّاء جمع سُکّ: چھوٹے کانوں والا۔ کُلُّ سَکّاءَ بیوض و کلُّ شرفاءَ وَلُود: ہر چھوٹے کان والی انڈے دیتی ہے اور ہر بڑے کان والی بچے جنتی ہے۔ اِستَکَّ اِستکاکًا النبات: پودے کا گنجان ہونا، گھنا ہونا۔ ۔۔ ت المسامعُ: بہرا ہونا۔ کہتے ہیں: مااستک فی مسامعی مثلُہ: میرے کانوں میں اس جیسی بات نہیں پڑی۔ ۔۔۔ البیتُ: دروازے کا شگاف بند ہونا۔ السُکّ: بچھو کا بل، مکڑی کا سوراخ، طبیعت کی کمینگی۔ ۔۔۔ جمع سِکاک و سُکوک: تنگ کنواں، تنگ کڑیوں والی زرہ، بند سڑک۔ السُکّی: کیل۔ السَکَک (مص): بہراپن۔ السَکّاء: تنگ کڑیوں والی زرہ۔ السَکوک: تنگ منہ کا کنواں۔ السُکاکۃ: چھوٹے کانوں والا۔

۲۔ سَکَّ ۔ سَکًّا العُملَۃَ: سکے ڈھالنا۔ السِکّۃ جمع سِکَک: سکہ ڈھالنے کا ڈھانچہ یا مشین۔ السِکّی: دینار۔ السَکّاک: سکے ڈھالنے والا۔

۳۔ سَکَّ ۔ سَکًّا البئرَ: کنواں کھودنا۔ کہتے ہیں: اینَ تَسُکُّ: کہاں جاتے ہو؟ السَکّ: سیدھی عمارت۔ السِکّۃ جمع سِکَک: ہل کا پھل یا پھالی۔ درختوں کی قطار، ہموار راستہ (سِکّۃ الحدید: ریل کی پٹری)۔ ڈاکخانہ گلی۔ کہتے ہیں: فلانٌ صعبُ السِکّۃ: وہ چین سے نہیں رہتا۔ اصحاب السِکک: اہم امور کے لئے بھیجے جانے والے وظیفہ خور، پیغام رساں۔ السِکاک: کہتے ہیں: ضربوا بیوتھم سکاکًا: انہوں نے اپنے مکان ایک قطار میں بنائے۔ السِکّی: قاصد، ڈاکیا۔ السَکّاکۃ: مسافر لوگ۔

۴۔ سَکَّ ۔ سَکًّا النعامُ ما فی بطنہ: شتر مرغ کا پتلی بیٹ کرنا۔

۵۔ السُکّ: ایک قسم کی خوشبو۔ السُکاک: کرہ ہوائی، بلند فضا کی ہوا، تیر میں پر کی جگہ۔ السُکاکۃ: بلند فضا کی ہوا، خوردراے۔

۶۔ سکسک: کمزور ہونا، بہادر ہونا۔ تَسکسک الیہ: سے عاجزی کرنا۔

○ سَکّ ۔ سَکًّا الباب: دروازہ کو چٹخنی لگانا، مقفل کرنا۔ سَکّ الروبیۃ: روپیہ (کا سکہ) ڈھالنا۔ سَکَّ ۔ سَکَکًا و اِستَکّ: بہرہ ہونا یا ہو جانا۔ سِکّۃ: پہلو کی گلی، چھوٹی گلی۔ سِکّۃُ الحدید اور السِکّۃ الحدیدۃ: ریل روڈ۔ دار السِکّۃ: ٹکسال۔ دار الضرب، (mint)۔ سکۃ زراعیۃ: پگڈنڈی۔ سَکّان جمع سکّانات: پتوار Rudder اَسَکّ م سَکّاء جمع سُکّ: بہرا۔ مسکوکۃ جمع مسکوکات: سکہ (coin) نالی کا سراخ۔ علم المسکوکات: علم مسکوکات Numismatics سِکارۃ جمع سکائر: سگریٹ۔ سکارین: سکرین (مصنوعی چینی)

سکب: ۱۔ سَکَبَ ۔ سَکبًا و تَسکابًا الماءَ ونحوہ پانی وغیرہ گرانا۔ سُکوبًا و انسکبَ الماءُ: پانی کا گرنا، بہنا۔ تَساکبَ الدمعُ: آنسو گرنا، بہنا۔ السَکبُ: لگاتار بارش۔ ۔ من الخیل: تیز رفتار گھوڑا۔ ماءٌ سَکبٌ: بہتا ہوا پانی۔ رجلٌ سَکبٌ: چست چالاک آدمی۔ السَکبۃ: سر کی بھوسی۔ الساکب والسکوب و السکیب: بہنے والا۔ الاُسکوب: بہنے والا لگاتار جھڑی۔ ۔۔ من البرق: زمین کی طرف کوندنے والی بجلی۔ الاُسکوبۃ و الاِسکابۃ: مشک کے شگاف میں دینے کی لکڑی۔ المَسکَبۃ جمع مَساکب: بہانے یا بہنے کی جگہ۔

۲۔ السَکَبُ: ایک قسم کا لباس، تانبا یا سیسہ۔ امرٌ سَکبٌ: لازمی کام۔ السَکَب: تانبا یا سیسہ۔ الاُسکوب: لوہار، تالے بنانے والا، دھات کا کام کرنے والا، درخت خرما کی قطار۔ ۔ والاِسکاب: موچی۔ المَسکَبۃ جمع مَساکب: نرسری، پودگھر، پودکیاری۔ السِکباج (ط): گوشت اور سرکہ سے تیار کردہ سالن (فارسی لفظ)

○ مَسکَبٌ جمع مَساکِب: کٹھالی۔ مَسکوبۃ: کٹھالی۔

سکت: ۱۔ سَکَتَ ۔ سَکتًا و سُکوتًا و سُکاتًا و ساکوتۃ: خاموش ہونا، مر جانا۔ ۔۔ الغضبُ: غصہ ٹھنڈا ہونا۔ الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا اور ہوا کا رکنا۔ الحرکۃُ: حرکت کا ٹھہرنا۔ سُکِتَ: کو سکتہ لاحق ہونا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مَسْکُوت: سکتہ میں مبتلا۔ سَکَّتَ ہٗ: کو خاموش کرنا، چپ کرانا۔ سَاکَتَ ہٗ فَسَکَتَہٗ: خاموش رہنے میں کسی سے مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔ أَسْکَتَ: خاموش ہوجانا۔ ہٗ کو خاموش کرنا، چپ کرانا۔ السَّکْت: بہت خاموش رہنے والا۔ السِّکِّیت: کم گو مگر جب بولے تو اچھی باتیں کرے۔ السُّکْتَة: سکت کا اسم، بچہ کو چپ کرانے کی لوری۔ السَّکْتَة: سکت کا اسم، سکتہ کی بیماری (طب) السِّکْتَة: بچوں کو چپ کرانے کی لوری۔ السُّکَات: بیماری جو بولنے میں مانع ہو۔ (طب)۔ من الجواب مُسْکِت: جواب کہتے ہیں۔ رماہٗ بسُکاتہ و صُماتِہٖ: اس نے اس کو خاموش کر دیا۔ من الحیّات: بے خبری میں ڈس لینے والا سانپ کہتے ہیں۔ ھو علی سُکَات الأمر: وہ کام ختم کرنے کے قریب ہے۔ السُّکاتة من الجواب: مسکت جواب۔ السَّکُوت و السَّاکُوتُ و السَّاکُوتَة و السِّکِّیت والسُّکَیت: بہت خاموش رہنے والا۔ السُّکَیت: بہت خاموش رہنے والا، گھوڑ دوڑ کا آخری گھوڑا۔ المُسَکِّت: جوئے کے کھیل کا آخری تیر۔

۲۔ أَسْکَتَ عن الشيء: سے اعراض کرنا۔

۳۔ السُّکْتَة: برتن کا بچا ہوا۔ أُسْکَاتُ الشيء: چیز کا بقیہ۔ چیز کے باقی ماندہ حصے۔ القومِ: قوم کے اوباش لوگ۔

◯ سَکَتَ ـُ سَکْتًا و سَکُوتا و سُکاتا (عن): پر خاموشی سے گزر جانا، کا جواب نہ دینا۔ سُکِتَ: کو سکتہ ہوجانا۔ أُسْکِتَ ہ: کو چھپانا، بتانے سے انکار کرنا۔ سکتة قلبية: دل کی حرکت بند ہونا۔ علی السَّکْتِ: خاموشی سے۔

سکر: ا۔ سَکَرَ ـُ سَکْرًا الإناءَ: برتن بھرنا۔ سَکِرَ ـَ سَکَرًا الحوضُ: حوض کا بھر جانا۔

۲۔ سَکَرَ ـُ سُکُورًا و سَکَرَانًا الريحُ: ہوا کا رک جانا، ٹھہرنا۔ الحرُّ: گرمی کا کم ہونا۔ الساکرِ م ساکِرَة (فا): ساکن۔ کہتے ہیں: لیلٌ ساکِرٌ: وہ رات جس میں ہوا ٹھہری ہوئی ہو۔

۳۔ سَکَرَ ـُ سَکْرًا النھرَ: دریا کے لئے بند بنانا۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔ سُکُورًا و سَکَرَانًا بصرہٗ: نگاہ دھندلی ہونا۔ سَکِرَ ـَ سَکَرًا و سَکْرًا و سُکْرًا و سُکُرًا و سَکَرَانًا من الشراب: شراب سے مدہوش ہونا۔ سَکِرٌ و سَکْرَان م سَکِرَةٌ و سَکْرَی و سَکْرَانَة جمع سَکْرَی و سَکَارَی و سُکَارَی مدھوش -- سَکْرًا الرجلُ

علیہ: کا کسی پر غضب ناک ہونا۔ سُکِرَ بصرہٗ: کی نگاہ دھندلی ہونا۔ سَکَّرَ الباب: دروازہ بند کرنا۔ ہٗ: کا گلا گھونٹنا۔ سُکِّرَ بصرہٗ: کی نگاہ دھندلی ہونا۔ أَسْکَرَہُ الشرابُ: کو شراب کا مدہوش کرنا، مست کرنا۔ تَسَاکَرَ: مستی ظاہر کرنا، نشہ آور چیز استعمال کرنا۔ السُّکْر (مص): مستی، نشہ۔ السُّکْر جمع سُکُور: سَکْرَ النھر (دریا بند کرنا) کا اسم دریا کا بند، پشتہ۔ السَّکَر: شراب، ہر نشہ آور چیز، سرکہ۔ السَّکْرَة(ن): ایک پودا۔ سَکْرَة الموت او الھم جمع سَکَرَات: موت یا غم کی شدت اور غشی۔ السَّکّار: نشہ آور اشیاء کا بنانے اور بیچنے والا۔ السِّکِّیر و السَّکُور و المِسْکِیر: بہت نشہ کرنے والا، عادی شرابی۔ السُّکَّرة (عام لوگوں کی زبان میں) لکڑی کا آلہ جس سے دروازہ لکڑی کی چابی سے بند کیا جاتا ہے۔

۴۔ سَکَّرَ الشيءُ: شکر کی طرح ہوجانا۔ السُّکَّر: شکر، چینی۔

۵۔ السُّکُرُّجَة والسُّکُرَّجَة: تشتری، رکابی۔

◯ سَکَّرَ ہ: میں چینی ڈالنا، پر شکر چھڑکنا کو چینی کے قوام میں رکھنا، پاگنا، چینی کے ساتھ محفوظ رکھنا، کا مربہ ڈالنا۔ سَکاکِر: مٹھائیاں، کیک، پیسٹریاں، شیرنیاں، ٹافیاں، کھانڈ کی مٹھائیاں۔ سُکَّر: چینی سُکَّر الثمار: پھلوں کی چینی۔ سُکَّر الشعیر: شیرہ کی چینی۔ سُکَّر العنب: انگور کی چینی۔ grape sugar malt sugar سُکَّر القصب: گنے کی چینی۔ سُکَّر اللبن: دودھ چینی۔ سُکَّر النبات: Rock sugar candy، suger candy قَصَب السکر: گنا مرض السکر: ذیابیطس Diabetes سُکَّرِی: چینی کا، چینی والا، میٹھا، سکرین Saccharine سکریات مٹھائیاں، ٹافیاں، کھانڈ کی مٹھائی۔ مرض البول السکری: ذیابیطس سُکَّرِيَّة: شکردانی Suger bowl مُسَکَّرات: مٹھائیاں، کینڈی، کنفکشنری۔ سِکُرتَاة: انشورنس، بیمہ۔ سکریتاریة: سیکرٹریٹ، سیکرٹری شپ۔ سِکَرْتو: روئی کی ردی cotton waste سکرتیر: سیکرٹری۔ سکرتیر عام: سیکرٹری جنرل۔

سِکْرِتِیرِیة: سیکرٹریٹ (Secretariat)

سُکَّرِین: سکرین Saccharin تَسَکْسُك: غلامانہ انداز سے پیش آنا، غلامانہ رویہ اختیار کرنا۔ تَسَکْسُك: غلامی Servility سَکْسُونِی: سیکسن Saxonian، Saxon سَکْسُونِیا: سکسونیا Saxonia

سکع: سَکَعَ و سَکِعَ ـَ سَکْعًا و سُکَعًا: آوارہ پھرنا کہتے ہیں۔ ما ادری این سکع: (میں نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا، عوام کی زبان میں سکع فلانٌ: اس وقت کہتے ہیں جب وہ لنگڑا کر چلے۔ تَسَکَّعَ الظلمة: اندھیرے میں بھٹکتے پھرنا۔ فی امرہ او مسیرہ: بے راہ چلنا، مدت تک باطل میں رہنا، عوام کی زبان میں جب کوئی کسی کی چاپلوسی کرے یا اس کے سامنے فروتنی کا مظاہرہ کرے تو کہتے ہیں۔ تَسَکَّعَ لہ رجلٌ سُکَعٌ: متحیر آدمی۔ السَّاکِع (فا) والسَّکِع: اجنبی آدمی۔ المَسْکَعَة: ایسی بات جس میں راہ نہ سوجھے۔ ارضٌ مُسَکِّعَةٌ: بھٹکانے والی بے راہ زمین۔

◯ طَرَدَہٗ الی حیث التَّسَکُّعُ: کو اندھیرے میں دھکیل دینا، کو غیر یقینی انجام سے دو چار ہونے دینا۔

سَکَّاف: موچی، کفش دوز۔ سِکافة: کفش دوزی، جوتے سازی کا پیشہ۔ اسْکاف، اِسکافي جمع اَسَاکِفة: کفش دوز۔

سکف: ا۔ سَکِفَ ـُ سَکْفًا الباب: دروازہ کی چوکھٹ بنانا۔ تَسَکَّفَ الباب: دروازہ کی چوکھٹ پر قدم رکھنا۔ السَّاکِف (فا): دروازہ کی چوکھٹ کی اوپر کی لکڑی جو دہلیز کے مقابل ہوتی ہے۔ الأُسْکُف من العین: پلکوں کے اگنے کی جگہ، آنکھ کا نچلا پپوٹا کہتے ہیں۔ وقفت الدمعةُ علی اسکف عینہ: آنسو پلکوں پر رک گیا۔ الأُسْکُفَّة و الأُسْکُوفة: چوکھٹ، دہلیز۔

۲۔ أُسْکُفَ: موچی ہونا۔ الأُسْکُف والاسکاف والأُسْکُوف والسَّکَّاف و السَّیْکَف: موچی۔ السِّکافة: موچی کا پیشہ۔

◯ سَاکِف: سردل، لنٹل، Lintel

سکم: سَکَمَ ـُ سُکُمًا: کمزوری سے قریب قریب قدم رکھنا۔ سَیْکَم: کمزوری کی وجہ سے قریب قریب قدم رکھنے والا۔ الاسْکِیم: راہب کا کپڑا یا اس کا سر پر ڈالنے کا کپڑا۔

سکن: ا۔ سَکَنَ ـُ سُکُونًا: ٹھہر جانا، سکون پذیر ہونا۔ عنہ الوجعُ: کا دور دور ہوجانا، جاتا رہنا۔ الحرف: حرف کا ساکن ہونا۔ سَکَّنَ المتحرك: متحرک کو ساکن کرنا۔ الحرف: حرف کو جزم دینا۔ أَسْکَنَ الفقرُ فلانًا: محتاجگی کا کسی کو بے حرکت کرنا۔ السُّکُون: بے حرکتی۔ السُّکَّان من السفینة جمع سُکّانات: پتوار۔

۲۔ سَکَنَ ـُ سُکُونًا الیہ: پر خوش ہونا، راحت پانا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تَسَکَّنَ آرام لینا قرار پانا۔ السَّکَن ہر وہ چیز جس سے آرام ملے، دل لگے رحمت، برکت۔ السَّکِینَۃ: وقار، ہیبت، اطمینان۔ السِّکِّینَۃ اطمینان، وقار۔

۳- سَکَنَ - سَکَناً و سُکنی الدارَ و فی الدار: گھر میں رہنا، اقامت کرنا۔ ساکن جمع سُکَّان و سَاکنون: (گھر میں) رہنے والا، اقامت کرنے والا۔ سَاکَنَ ذُنی دارٍ واحدۃ: کے ساتھ ایک گھر میں رہنا۔ اَسْکَنَ ہ الدار: کو گھر میں رکھنا، کی (گھر میں) بودوباش کرانا، کو آباد کرنا۔ تَسَاکَنُوا فی الدار: گھر میں مل کر رہنا۔ السُّکْن: گھر، گھر والے۔ السَّکَن: سَکَنَ کا اسم، رہنے کی جگہ، آگ۔ اسکان کا واحد بمعنی غذا خوراک۔ السَّکِنَۃ جمع سَکِنَات: سر کے قیام کی جگہ کہتے ہیں۔ ترکتھم علی سکناتھم: میں نے ان کو اپنی حالت میں چھوڑا۔ السُّکْنٰی: سکن کا اسم، رہنے کی جگہ، رہائش کی جگہ۔ المَسْکِن والمَسْکَن جمع مَسَاکِن: گھر، مکان، منزل۔

۴- سَکَن - سُکُونًا و سَکُنَ - سُکُونَۃ: مسکین ہونا۔ اَسْکَنَ الرجلُ: مسکین ہونا۔ کو مسکین بنانا۔ تَسَکَّنَ و تَمَسْکَنَ: مسکین ہونا۔ اِسْتِکَان اِسْتَکَانَۃً و اسْتَکَنَ: ذلیل وعاجز ہونا۔ المَسْکَنَۃ: غربت، افلاس محتاجگی، ذلت، کمزوری۔ المِسْکِین جمع مِسکینون و مَساکِین مِسکِینَۃ و مِسکِین: کچھ نہ رکھنے والا، عیال کے لئے بقدر کفالت نہ رکھنے والا، ذلیل، مغلوب۔

۵- السُّکَین (ح) ہلکا پھلکا تیز رو گدھا۔ السُّکَیْنَۃ (ح): گدھی۔ السِّکِّین جمع سَکَاکِین و السِّکِّینَۃ: چھری، چھرا۔ السَّکَّان چھریاں بنانے والا۔

○ سَکَنِی خاکستری۔ فی حرکاتہ و سکناتہ: اپنے تمام اعمال میں، ہرصورت حال میں۔ سکون الطائر: سنجیدگی، تشویشناک، متانت۔ سَکَّان چھری چاقو والا (Cutler)۔ مَحَلُ السُّکنی: رہائش گاہ۔ سَکَاکِینِی: چھری چاقو والا (Cutler)۔ تسکین: غصہ ٹھنڈا کرنا، سکون دینا۔ اسکان: بسانا، رہائش فراہم کرنا، آباد کرنا۔ السُّکَّان: آبادی Population۔ ساکن الجنان: بہشتی، مرنے والا۔ کثیر السُّکَّان: گنجان آباد۔ لایُحرِّکُ ساکِناً: وہ ہلتا نہیں، سرکتا نہیں، وہ اپنی انگلی نیچے نہیں کرتا، جنبش نہیں کرتا، سردمہر رہتا ہے۔ حرّک ساکنہ: کو متحرک کرنا، مضطرب کرنا، جگانا، بیدار کرنا، برانگیختہ کرنا۔ مَسْکُون: آباد، جس میں رہائش ہو، جہاں بھوتوں کا بسیرا ہو (haunted)۔ المَسْکُونَۃ: دنیا، آباد دنیا، ربع مسکون۔

سکنجبین: سکونجی۔ سِکَنْدِنَافِیا و سِکَنْدِنَاوَہ: سکینڈے نیویا Scandinavia (ایک ملک کا نام)

سکند نافی: سکینڈ نیوی: ملک سکینڈے نیویا کا۔

سکو: السّکو لاستیک یونانی فلسفہ پر مبنی دینی تعلیم۔

سل ۱- سَلَّ - سَلاًّ الشیءَ من الشیءِ: ایک چیز میں سے دوسری چیز آہستہ آہستہ نکالنا۔ - سَلاَّ گرے ہوئے دانتوں والا ہونا۔

سَلّ: گرے ہوئے دانتوں والا۔ سَلّہ گرے ہوئے دانتوں والی۔ أَسَلَّ اِسْلاَلاً الشیءَ: کو چپکے سے چرانا۔ تَسَلَّلَ وانْسَلَّ من الزحام: بھیڑ میں سے چپکے سے کھسک جانا کہتے ہیں۔ اِنْسَلَّ قیدُ الفرس من یدہ: اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی رسی نکل گئی۔ سَلَلْتُ السیف من الغِمْد فانسَلّ: میں نے میان سے تلوار نکالی تو وہ نکل آئی۔ اِسْتَلَّ الشیءَ من الشیءِ: ایک چیز کو دوسری چیز سے آہستہ آہستہ نکالنا۔ اِسْتُلَّ فلانٌ بکذا: فلاں شخص ایک چیز چھپا کر لے گیا۔ السالّ (فا) جمع سُلاَّن و سَوَالّ: وادی میں پانی بہنے کی تنگ جگہ، چور۔ الأَسَلّ چور۔ السَّلَّۃ جمع سِلاَل: خفیہ چوری، حوض کا نقص کہتے ہیں۔ فرسٌ سریعُ السَّلَّۃ: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ أتیناھم عند السَّلَّۃ: سین کی زبر کیساتھ مرۃ کے معنی ہیں اور زیر کے ساتھ نوع کے معنی ہیں) ہم ان کے پاس تلواریں سونتنے کے موقع پر آئے۔ السلال: چور۔ السلیل: کھینچا ہوا سونتا ہوا۔ (کہتے ہیں۔ سیفٌ سلیلٌ: سونتی ہوئی تلوار) وادی میں پانی بہنے کی جگہ، بیٹا (کہتے ہیں۔ ھو سلیل الاکارم یعنی وہ بزرگوں کی اولاد ہے) خالص شراب، حرام مغز، کوہان۔

السَّلِیلَۃ: بیٹی، پیٹھ کے گوشت کا لمبا ٹکڑا، (ح) لمبی مچھلی۔ السُّلالۃ: کسی شئی سے نکالی ہوئی چیز، نسل، اولاد (کہتے ہیں۔ ھو سُلالۃ طیبۃٌ و من سُلالۃ طیبۃ: وہ اچھی نسل کا اچھا بیٹا ہے)، خلاصہ۔

المِسَلَّۃ جمع مِسَلاّت و مَسَالّ بڑی سوئی، سوا۔ مِسَلَّۃُ فرعون: سوئی کی شکل کا طویل مربع ستون جو فراعنہ کی یادگار ہے (obelisk)۔

۲- سُلَّ لاغر ہونا، سل کی بیماری میں مبتلا ہو کر لاغر ہونا۔ مَسْلُول: سل کی بیماری میں مبتلا لاغر شخص۔ أَسَلَّ اِسْلاَلاً اللّہُ فلاناً: اللہ کا فلاں کو سل کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ السِّلّ و السُّلّ و سُلاَل لاغری، پھیپھڑے کی بیماری۔ سِل (طب): السَّلَّۃ جمع سِلاَل: سل کی بیماری۔

۳- السَّلّ جمع سِلال: عطر فروش کا ڈبہ، عوام کے نزدیک وہ ٹوکری جو درخت کی شاخوں سے بنائی گئی ہو۔ السَّلَّۃ جمع سِلال: ٹوکری السَّلاّل ٹوکریاں بنانے یا بیچنے والا۔

۴- سَلْسَلَ سَلْسَلَۃً الماءَ: پانی کو پستی کی طرف بہانا کہتے ہیں۔ ماسَلْسَلَ طعاماً: اس سے کھانا نہیں کھایا۔ تَسَلْسَلَ الماءُ: پانی کا نشیبی زمین میں بہنا۔ السَّلْسَل و السَّلْسَال و السُّلاَسِل: میٹھا پانی، حلق سے بآسانی اتر جانے والی شراب۔ د۔ سَلْسَلَ سَلْسَلَۃً الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا، ملانا۔ سلسل فلاناً الی فلان: کو کسی کی طرف نسبت میں جوڑنا۔ کسی کے دوسرے کسی سے سلسلہ نسب کی اصل کا پتہ لگانا۔ السَّلْسَلَۃ: کوہان کا لمبا ٹکڑا۔ السِّلْسِلَۃ جمع سَلاسِل: لوہے وغیرہ کی زنجیر، کوہان کا لمبا ٹکڑا۔ سَلاسِلُ الکتاب: کتاب کی سطریں۔ البرق: بادل کی چوڑائی میں لمبائی میں چمکنے والی بجلی۔ شَعرٌ مُسَلْسَل: گھنگریالے بال۔ المُتَسَلْسِلَۃ (ع ح): مسلسل اعداد جن میں ایک عدد سے پہلے ایک بڑھانے سے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ۱، ۳، ۷، ۱۵، ۳۱ (۱+۱=۲ اور ۲=۱+۲ ۳+۳=۶، ۶+۱=۷ اسی طرح ۷+۷=۱۴، ۱۴+۱=۱۵ اور ۱۵+۱۵=۳۰، ۳۰+۱=۳۱)

۶- تَسَلْسَلَ فِرِنْدُ السیف: تلوار کے جوہر کا چمکنا۔ المُسَلْسَل من الثیاب دھاری دار کپڑا۔ سیفٌ مُسَلْسَلٌ: چمکنے والی تلوار، سیف لامع۔

۷- تَسَلْسَلَ الثوبُ: کپڑے کا پہننے سے پتلا ہو جانا۔ المُسَلْسَل والمُتَسَلْسِل من الثیاب بودی بناوٹ کا بوسیدہ کپڑا۔

○ اِنْسَلَّ الی میں سرایت کرنا (سیاسی طور پر بھی) فوجی دستوں کا محاذ کے پار نکل جانا (عسکری)

سَلّ ٹوکری۔ السِّل التدرنی: سل دق، تپ دق۔ السِّل الرِّئَوِی: پھیپھڑوں کی سل Pulmonary tuberculosis سَلَّۃ جمع سِلال: ٹوکری سَلَّۃ المُھمَلات ردی کی ٹوکری۔ کُرۃُ السَّلَّۃ باسکٹ بال۔ سُلالی کنبہ کا، خاندانی۔

سلأ: سَلَأَ - سَلْأً السمنَ گھی صاف کرنا۔ السِّمْسِمَ: تلوں سے تیل نکالنا۔ الجذعَ جڑ پر سے کانٹے چھیلنا۔ اِسْتَلَأَ السمنَ گھی صاف کرنا۔ السِّلاء جمع اَسْلِئَۃ سلأ کا اسم، گرم کر کے صاف کیا ہوا گھی۔ السُّلاء (سُلاءۃ کا واحد) کھجور کے درخت کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کانٹے ، درخت خرما کے کانٹوں کی مانند تیر کا پھل۔(ح) ایک پرندہ۔

۲۔ سَلَا۔ سَلاهُ مِنهٗ سوطٍ: کوسوکوڑے مارنا۔

سلب: سَلَبَ۔ سُلبًا و سَلبًا الشیءَ: (دوسرے سے) چیز زبردستی چھیننا ــــ و اسْتَلَبَ هٗ ثوبَه: فریب سے کسی کے کپڑے چھیننا۔ سَلَّبَ و أَسْلَبَتِ الناقة او المراۃ: اونٹنی یا عورت کے بچے کا مرجانا یا ادھورا بچہ گرانا۔ سلیب و سَلوب جمع سُلُب و سَلائب و سالِبٌ و سَلَبٌ و مُسْلِب و مُسَلِّبٌ: اونٹنی یا عورت جس کا بچہ مرگیا ہو یا ادھورا گرا ہو۔ السَلَب جمع أسْلاب: چھینی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ اَخذ سلبَ القتیل اس نے مقتول کا سامان لے لیا۔ السَلِیب جمع سَلْبَی: عقل یا مال کھویا ہوا۔ السَلَّاب بہت چھیننے والا۔ السَلَّابة و السَلَبوت: (مذکر و مونث) لٹیرا، چور۔

۲۔ سَلَبَ۔ سُلبًا و سَلبًا القصبةَ او الشجرةَ: (نرسل، گنا، درخت) چھیلنا ــــ السیفَ: تلوار ننگی کرنا۔ صفت سَالِب جمع سُلّاب و سَالِبُون م سَالِبة جمع سالبات و سوالب۔ اَسْلَبَتِ الشجرةُ: درخت کا پھل یا پتے گرنا۔ انْسَلَبَ: بہت تیز چلنا (عام طور پر اونٹنی کے لئے مخصوص ہے)۔ السَلْب: تیز رفتاری، سبک رفتاری۔ فرسٌ سَلِبُ القوائم: پتلی ٹانگوں والا گھوڑا۔ السَلَب: درخت کا ریشہ یا چھلکا جس سے رسیاں بنی جاتی ہیں ــ من القصبة: نرسل کا چھلکا۔ سلبُ الذبیحة: ذبح شدہ جانور کا چمڑا، پائے اور پیٹ۔ السَلِب: ہلکا۔ شجرۃ سَلِیب جمع سُلُبَی: وہ درخت جس کے پتے جھاڑ دیئے گئے ہوں اور شاخیں چھانٹ دی گئی ہوں۔ السُلْبَة: برہنگی، عریانی۔ السَلّاب: درخت سے رسیوں کے لئے ریشے نکالنے والا۔

۳۔ سَلِبَ۔ سَلَبًا: ماتمی لباس پہننا۔ السِلاب جمع سُلُب: سیاہ ماتمی لباس۔ کہتے ہیں۔ لبست الثکلی السِلاب: ماں نے جس کا بچہ مرگیا غم کا لباس پہن لیا۔

۴۔ السَلِب: طویل، لمبا۔ الاُسْلُوب جمع اسالیب: طریقہ، راستہ، روش، انداز، (کہنے اور کام کرنے کا) ناک کا اونچا ہونا۔ کہتے ہیں۔ انفه فی اسلوب: یعنی تکبر سے اسکی ناک دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ السَلِبِیَّة (ن): پیرو میں اگنے والا ایک پھول۔

○ سَلَبَ۔ سَلبًا ہ من /ہ ھ: سے کوئی چیز چھیننا ــ ہ/ہ مــن: کو سے محروم کرنا۔ ہ ھ: سے کوئی چیز لوٹ لینا ــ ہ: (شکست خوردہ فوج) کو اسلحہ اور کپڑوں وغیرہ سے محروم کردینا ــ ہ ھ: سے کوئی چیز روک لینا، کو کوئی چیز نہ دینا۔ سَلِبَ۔ سَلَبًا: ماتمی لباس پہننا، ماتمی حالت میں ہونا۔ تَسَلَّبَ: ماتمی حالت میں ہونا۔ سلبٌ: لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ، لوٹ مار، نفی۔ ابطال۔ علامَةُ السلب: نفی، تفریق کی علامت۔ سلبی: انکاری، منفی، انفعال۔ الدفاع السلبی یا المقاومة السلبیة: مقاومت مجہول۔ سَلبِیَة: منفیت، منفی رویہ۔ سَلَب جمع أسْلاب: لوٹ کا مال، مال غنیمت، رسیاں، ذبح شدہ جانور کی کھال پائے اور پیٹ۔ سَلّاب: ڈاکو، لٹیرا۔ سلیب: چوری شدہ، لیا ہوا، چھینا ہوا۔ اسلوب جمع اسالیب: طریقہ، راستہ، طریقہ کار، انداز اسلوب، طور، سٹائل (مصنف کے) سٹائل کی خصوصیت، اسلوب کتابی، ادبی سٹائل۔ سالِب: منفی جمع سوالب: نیگیٹو (فوٹو) مسلوب: ناکام۔

سلت: ا۔ سَلَتَ۔ سَلتًا المعیَ: آنتوں کو ہاتھ سے نکالنا۔ الشعَرَ او الرأسَ: بال یا سر مونڈنا۔ الشیءَ: چیز کاٹنا ــــ ت المرأةُ الخِضابَ عن یدها: عورت کا اپنے ہاتھ کی مہندی کو چھڑا ڈالنا۔ بسلحه: بیٹ کرنا۔ و اسْتَلَتَ القصعةَ: پیالے کو انگلیوں سے پونچھنا۔ اِنْسَلَتَ: چپکے سے بے خبری میں کھسک جانا۔ سَلتة: کہتے ہیں۔ ذهب منی فلتة و سَلتة: وہ مجھ پر سبقت لے گیا اور میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ السُلاتة: دور کی ہوئی یا نکالی ہوئی چیز۔ پیالے کے اطراف سے انگلیوں سے پونچھی ہوئی چیز۔ الاَسْلَت م سَلتاء جمع سُلت: جڑ سے کٹی ہوئی ناک والا۔ اِمراۃ سَلتاء: مہندی نہ لگانے والی عورت۔

۲۔ سَلَتَ۔ سَلتًا هٗ: کو مارنا، کوڑے مارنا۔ جیسے سَلَتَهٗ مائةَ سوط: اس نے اسے سو کوڑے مارے۔

۳۔ السُلت: بے چھلکے والا جو، جو السُلت او الشیلَم (ن): گندم کی طرح کا ایک پودا اس کے آٹے سے روٹیاں پکائی جاتی ہیں، زردی مائل ہے اس کی کاشت یورپ کے انتہائی سرد علاقوں تک محدود ہے۔

سلج: ا۔ سَلَجَ۔ سُلوجاتِ الابل: اونٹ کا سلج گھاس کھانے سے پیٹ چلنا۔ سَلجًا و سَلَجانًا الفصیلُ الناقةَ: اونٹنی سے علیحدہ کئے گئے بچہ کا اونٹنی کا دودھ پینا۔ سَلِجَ۔ سَلَجًا و سَلَجانًا ت الابل: اونٹ کا سلج گھاس کھانے سے پیٹ چلنا۔ اللُقمةَ: لقمہ نگلنا۔ تَسَلَّجَ الطعامَ: کھانا آسانی سے نگلنا۔ و اسْتَلَجَ الشرابَ: شراب غٹ غٹ [illegible] السُلَّج جمع سَلا[illegible] (ن) ایک گھاس [illegible]

السَلِیج من الاَکل: لذیذ عمدہ حلق سے جلد اتر جانے والی غذا۔ السِلَجان: حلق

۲۔ السَلج: عطاء، بخشش۔ السُلجَة جمع سُلَج (ح): سمندری سیپی

۳۔ السَلَجلَج و السُلَجلِج من الطعام: عمدہ لذیذ کھانا۔

۴۔ السَلْجَم جمع سَلاجِم: گھنی داڑھی، لمبے جبڑوں والا سر، بہت پانی والا پرانا کنواں (ن): شلغم ــ و السُلاجم جمع سَلاجِم: لمبا گھوڑا یا تیر یا آدمی، بہت بوڑھا اونٹ۔

سلح: ا۔ سَلَحَ۔ سَلحًا: بیٹ کرنا، لید کرنا (پرندوں اور چوپایوں کے لئے مخصوص ہے۔ انسان کے لئے مجازاً آتا ہے) سَلَحَ و أسْلَحَ هٗ: کو مسلح کرنا۔ السَلح جمع سُلوح و سُلحان: پتلا پاخانہ۔ السُلاح: پتلا پاخانہ، اسہال۔

۲۔ سَلَحَ هٗ: کو اسلحہ سے لیس کرنا۔ هٗ السیفَ وَ بالسیف: کو تلوار باندھنا۔ تَسَلَّحَ: اسلحہ سے لیس ہونا، مسلح ہونا۔ السَالِح (فا): مسلح، ہتھیار بند۔ السِلاح جمع أسلِحَة و سُلُح و سُلحان: ہتھیار (مذکر و مونث) السِلاحْدار جمع سِلاحْدارِیَة: ہتھیار بند (فارسی لفظ سلاح و دار سے مرکب) المَسْلَحة جمع مَسالِح: اسلحہ خانہ، میگزین، پہرہ کی جگہ، مسلح جماعت (اع) فوج کا اگلا مورچہ۔

۳۔ السُلَّح: شیرہ جس سے گھی کی مشک کو ملا جاتا ہے۔ السُلَح جمع سِلحان و السُلَحَة (ح): چکور کا بچہ۔ السَلَح: گڑھوں میں بارش کا پانی۔ السِلّیح: قاصد، پیغمبر (سریانی لفظ ہے)

۴۔ اِسْلَحَبَّ الطریقُ: راستہ کا واضح، لمبا اور سیدھا ہونا۔ مُسْلَحِب: واضح، لمبا اور سیدھا راستہ۔

۵۔ السُلَحْفاة و السِلَحْفاة و السُلَحْفا و السُلَحْفی و السُلَحْفِیَّة جمع سَلاحِف (ح): کچھوا، بحری کچھوے کے مذکر کو عیلم کہتے ہیں۔ عام لوگ اسے زلحفة کہتے ہیں۔

○ سِلاح جمع أسْلِحَة: ہتھیار، مسلح افواج کی ایک شاخ (کے طور پر) سروس، زرہ بکتر، ہل کی پھال، سٹیل کی سنی۔ سلاح الطیران: ہوائی فوج۔ فضائیه: Air force سِلاح الفرسان رسالہ: (Cavalry) شاك السلاح: سر سے پاؤں تک مسلح۔ سَلَّم سلاحَهٗ: ہتھیار ڈالنا، اطاعت قبول کرنا، مغلوب ہونا۔ سباق التسلح: اسلحہ کی دوڑ Arms race القُوَّاتُ المُسَلَّحة: مسلح افواج اِسْمِنت مُسَلَّح: ریت، سیمنٹ اور بجری سے تیار

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کردہ مسالہ۔ Reinforced concrete
خرسانہ مُسَلَّحَۃ: ایضاً زُجاج مُسَلَّح: تاردار
شیشہ۔ Wired glass

سلخ: ا۔ سَلَخَ ـُ سَلْخاً الخروف: بکری کے بچے کی کھال اتارنا۔ ـ تِ المرأۃُ درعھا: عورت کا اپنا کرتا اتارنا۔ تِ الـحیَّۃُ: سانپ کا اپنی کینچلی اتارنا کینچلی سے نکلنا۔ اللّٰہُ النھارَ من اللیل: اللہ کا دن کو رات سے علیحدہ کرنا۔ ـ الشھرُ: مہینہ کا گزرنا۔ ـ الرجلُ الشھرَ: آدمی کا مہینہ کو آخر تک گزارنا۔ سَلَّخَ الحرُّ جلدۃَ: گرمی کا کسی کی کھال کو اتار دینا۔ تَسَلَّخَ جلْدُہٗ: کھال کا اترنا۔ انْسَلَخَ من ثیابہ: ننگا ہونا۔ الشھرُ من سنتہ: مہینہ کا گزرنا۔ النھارُ من اللیل: دن کا رات سے علیحدہ ہونا۔ تِ الحیَّۃُ من قشرھا: سانپ کا کینچلی سے نکلنا۔ سَلْخُ الشھر: مہینہ کا آخر۔ وسُلْخَۃُ الحیَّۃِ: سانپ کی کینچلی۔ السِلْخ: جانور کی اتاری ہوئی کھال۔ سِلْخُ الحیَّہ: سانپ کی کینچلی۔ السَلَخ: تکلہ پر چڑھا ہوا دھاگا۔ السَالِخ: اونٹ کی خارش، سیاہ سانپ کی صفت کیونکہ یہ ہر سال اپنی کینچلی اتارتا ہے۔ پٹی کو أَسْوَدَۃ: کہتے ہیں۔ اسکی صفت سَالِخۃ: نہیں آتی اور صفت میں سالخ کا تثنیہ نہیں آتا بلکہ کہا جاتا ہے۔ أَسْوَدُ سَالِخٍ وأَسْوَدَان سَالِخ اور جمع میں کہتے أَسَاوِدُ سالخۃ وسَوَالِخ و سُلَّخ و سُلْخَۃ الأَسْلَخ: گنجا۔ السلیخ: کھال کھینچا ہوا کہتے ہیں۔ شَیْءٌ سَلِیْخٌ مَلِیْخٌ: یعنی چیز بے ذائقہ ہے۔ السَلاَخَۃُ فی الشیء: چیز کا بے مزہ ہونا۔ السَلِیْخَۃ: بیٹا السَلاَّخ: بہت کھال کھینچے والا۔ المَسْلَخ: وہ جگہ جہاں کھالیں اتاری جاتی ہیں۔ آج کل مذبحہ یا بوچڑ خانہ کے معنی میں مستعمل ہے۔ المِسْلاخ: سانپ کی کینچلی۔ کچا چمڑا۔ ـ من النخل: وہ کھجور کا درخت جس کی کچی کھجوریں گر جائیں۔ مُنْسَلَخُ الشھر: مہینہ کا آخر۔ الانْسِلاخ: شیر کا ایک حالت سے دوسری میں منتقل ہونا۔

۲۔ اِسْلَخَّ اسْلِخَاخاً الرجلُ: لیٹنا۔

۳۔ الأَسْلَخ: تیز سرخ رنگ کا۔ السَلِیْخَۃ: بان کا تیل جسے ابھی بہتر اور خوشبودار نہ بنایا گیا ہو۔ (من شجر الرمث ونحوہ: وہ درخت جس میں چرنے کو کچھ نہ ہو بلکہ محض خشک لکڑی بن کر رہ گیا ہو۔) زمین جسے پانی نہ دیا جاتا ہو۔

۞ سَلْخ: علیحدہ کرنا، کھال اتارنا، ادھیڑنا، کھینچنا۔ سانپ کی کینچلی، مہینے کا آخر۔ خشب سَلْخ: نرم لکڑی۔ سَلاّخ جمع سَلاَّخَۃ وسَلاَّخون: بوچڑ۔ سلیخ: اتری ہوئی ادھیڑی ہوئی، کھینچی ہوئی (کھال) بے مزہ، بے لطف، بے کیف (کھانا)۔ سلیخۃ: (چین کا) دارچینی کا درخت۔ سَلْخانۃ جمع سَلْخانات: بوچڑ خانہ۔ مَسْلَخ جمع مَسَالِخ: بوچڑ خانہ۔ مُنْسَلَخ: مہینہ کا آخر۔

سلر: السِلَّوْر (ح): ایک قسم کی مچھلی جس پر چھلکے نہیں ہوتے (یونانی لفظ)

سلس: ا۔ سَلِسَ ـَ سَلَساً تِ النخلۃ: درخت خرما کی جڑوں کا گر جانا۔ صفت سَلِس: اگر ایسا عادتاً ہوتا ہو تو صفت مِسْلاس ہوگی۔ تِ الخشبۃُ: لکڑی کا بوسیدہ ہونا۔ سُلِسَ سُلاساً و سُلْسًا و سَلَسًا: کی عقل جاتی رہنا۔ صفت مَسْلُوس۔ أَسْلَسَ تِ النخلۃ: بمعنی سَلِسَتْ۔

۲۔ سَلِسَ ـَ سَلَسًا و سَلاسۃً و سُلُوسًا: نرم و مطیع ہونا۔ صفت سَلِس و سالِس: کہتے ہیں۔ سَلِسَ بـحقی: یعنی اس نے آسانی سے مجھے میرا حق دیدیا۔ أَسْلَسَ قِیادَہٗ: کو آسان، نرم و مطیع بنا دیا۔ تَسَلَّسَ الشیءُ: نکلنا۔ السَلَس (مص): سہولت، نرمی، تابعداری، پیشاب کا نہ رکنا۔ السَلِس: آسان، نرم، تابعدار کہتے ہیں۔ ھو سَلِسُ البول: وہ پیشاب روک نہیں سکتا۔ شرابٌ سَلِسٌ: حلق سے نرمی سے اتر جانے والی شراب۔ مِسْمارٌ سَلِسٌ: ہلنے والی میخ کیل۔

۳۔ سَلَّسَ الحلیَ: زیور کو جواہرات سے مرصع کرنا۔ السَلْس جمع سُلُوس: کان کی بالی، دھاگا، جس میں موتی پروئے جائیں۔

۴۔ السَلْسَبِیل جمع سَلاسِب و سَلاسِیب م سَلْسَبِیلۃ جمع سَلْسَبِیلات: نرم، شراب، میٹھا پانی، خوشگوار حلق سے اتر جانے والا پانی۔ بہشت کے ایک چشمہ کا نام۔

۞ سَلِسَ ـَ سَلَسًا و سَلاسۃً: مطیع ہونا، حکم کی تعمیل کرنے والا ہونا، فرمانبردار ہونا، نرم ہونا، رواں ہونا، خوش اسلوب ہونا۔ أَسْلَسَ ہ / ھ: کو مطیع کرنا، تابع دار بنانا، زیر کرنا، مغلوب کرنا، قابو میں کرنا۔ ھ: کو آسان بنانا، نرم بنانا، رواں اور خوش اسلوب بنانا۔ سَلِس: مطیع، نرم، خم پذیر، تعمیل حکم کرنے والا، فرمانبردار، لچکدار، نرم، خوش اسلوب۔ سَلِس القیاد: مطیع، خم پذیر، حکم کی تعمیل کرنے والا، فرمانبردار۔ سلاسۃ: خم پذیری، اطاعت، تعمیل حکم، فرمانبرداری (نیز سلاسۃ القیاد): نرمی روانی، خوش اسلوبی۔ أَسْلَس: زیادہ مطیع، زیادہ خم پذیر، زیادہ فرمانبردار، زیادہ لچکدار، زیادہ نرم، زیادہ رواں، رواں تر، خوش اسلوب۔

سَلْسَلَ ہ ب: کو سے باہم ملانا، جوڑنا، کے ساتھ سلسلہ قائم کرنا، کے ساتھ پھنسانا، جوڑنا، متحد کرنا، کنکٹ کرنا۔ سلسل ہ: کو بیڑی پہنانا، ہتھکڑی لگانا۔ الماءَ فی: میں پانی ڈالنا۔ سَلْسَلَہٗ الی: کے شجرہ نسب کا پتہ لگانا۔ تَسَلْسَل: بہنا، ٹپکنا، رسنا، ایک سلسلہ بنانا، جاری رہنا، باہم مربوط ہونا۔ سَلْسَل: ٹھنڈا تازہ پانی۔ سِلْسِلۃ: (مضامین، مقالات وغیرہ) کا سلسلہ سِلْسِلۃ الجبال: پہاڑوں کا سلسلہ۔ سلسلۃ الظھر: پیٹھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی۔ السلسلۃ الفقریۃ: ایضاً۔ سلسلۃ الاکاذیب: جھوٹ کی عمارت۔ Fabric of lies سلسلۃ النسب: سلسلہ نسب، شجرہ نسب، نسب۔ تَسَلْسُل: ترتیب، سلسلہ، یکے بعد دیگرے آنا یا ہونا۔ بالتسلسل: بغیر رکاوٹ، لگاتار، پے درپے، مسلسل۔ نَشَرَہٗ بتسلسل: کو سلسلہ وار شائع کرنا کو قطوں میں شائع کرنا۔ مُسَلْسَل: بندھا ہوا، مسلسل، غیر منقطع۔ ردِّ فعلٍ مُتَسَلْسِل: جاری ردعمل Chain reaction المرأۃ المُسَلْسَلَۃ: اندرآمیدہ، ستاروں کا جھرمٹ، مجمع نجھتر Andromeda مُتَسَلْسِلٌ: جاری (گنتی)۔

سلط: ا۔ سَلِطَ ـَ وسَلُطَ ـُ سَلاطۃً و سُلُوطۃً: زبان دراز ہونا۔ السَلْط: زبان دراز، لمبی زبان۔ سخت السلیط: خوش بیان، تیز زبان آدمی (جب مرد کی صفت ہو تو مدح کے معنی ہیں اور عورت کی صفت ہو تو اسکی مذمت کے معنی دیتا ہے) ہر چیز میں تیز، سخت۔ لِسانٌ سلیط: لمبی زبان۔ رجلٌ سَلِیط: زبان دراز۔ امرأۃ سلیطۃ: زبان دراز، بدزبان عورت۔ امرأۃٌ سَلْطَانۃٌ وسُلْطَانۃُ اللسان: تیز زبان دراز عورت۔

۲۔ سَلَّطَہٗ علیہ: کو پر غلبہ دینا، اختیار دینا، قابض کرنا۔ تَسَلَّطَ علیہ: پر غالب آنا قابض ہونا، قادر ہونا۔ السُلْطۃ: حکومت، طاقت، اختیار۔ السلیط: زیتون کا عمدہ تیل، ہر قسم کے دانہ کا تیل۔ السُلْطان جمع سَلاطِین: حجت۔ آپ کہتے ہیں۔ لہ سلطانٌ مبین: وہ صاف اور کھلی دلیل رکھتا ہے۔ کہتے ہیں۔ یہ سلیط سے مشتق ہے۔ اور سلیط اس چیز کو کہتے ہیں جس سے روشنی کی جائے اس لئے زیتون کو سلیط کا نام دیا گیا، قدرت، اقتدار، بادشاہ۔ التَسَلُّطِیَّۃ: سامراجی، توسیع پسندی کی سیاست، آج کل اسے سیاسۃٌ توسُّعِیَّۃٌ: Policyof expansim, Expansionist policy کہتے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہیں، اور سیاسة التوسع بھی کہا جاتا ہے۔ سُلْطَة جمع سُلطات : طاقت، اقتدار، قوت، اختیار، اتھارٹی، حکمرانی، تسلط، اثر ونفوذ، مطلق العنانی۔ دائرہ اختیار۔ السلطة الأبویة :پدرانہ اختیار، قبیلہ یا خاندان کی سربراہی۔ السلطة الروحیة :روحانی طاقت۔ السلطة التشریعیة :قانون سازی کا اختیار۔ سلطة عسکریة :فوجی اختیار۔ السلطة القضائیة :عدالتی اختیار۔ السلطة التنفیذیة :قوت نافذہ، عاملہ۔

۳۔ السَّلِط جمع سِلاَط: نیزہ کی انی جس کے وسط میں ابھار نہ ہو۔ السُّلُط :لمبی ٹانگیں۔ السِّلْطَة :جمع سِلَط وسِلاَط: لمبا باریک تیر، گھاس اور بھوسہ رکھنے کا کپڑا۔ السَّلاطة (ط) :سلاد Salad۔ المِسْلاط جمع مَسَالیط : چابی کا دندانہ۔ رجُلٌ مَسْلُوطُ اللحیة :ہلکی داڑھی والا۔

۴۔ اِسْلَنْطَحَ الرجُلُ :منہ یا پیٹھ کے بل گرنا۔ ۔ الوادی :وادی کا وسیع اور فراخ ہونا۔ الشیءُ :چیز کا لمبی اور چوڑی ہونا۔ السُّلْطُح :چکنا پہاڑ۔ السَّلاطِح: چوڑی، چوڑا۔ السَّلَنْطَح و المُسْلَنْطِح :کشادہ فضا۔

۵۔ اِسْلَنْطَعَ الرجُلُ :چت لیٹنا۔ السُّلْطُوع :چکنا پہاڑ۔ السَّلَنْطَع :پاگل کی طرح گفتگو میں جہالت کرنے یا اٹکنے والا۔ ـــ والسِلِنْطَاع :لمبا، دراز قد آدمی۔

۶۔ سَلْطَنَ سَلْطَنَةً ہُ : کو سلطان بنانا۔ تَسَلْطَنَ: سلطان بننا۔

سلع ۱۔ سَلَعَ ۔سَلْعًا الرأسَ :سر پھاڑنا۔

سَلِعَ ۔سَلَعًا قدمُہُ :کے پاؤں کا پھٹنا۔

سَلَّعَ ہُ :کو پھاڑنا۔ اسْلَعَ :کے جسم میں زخم ہونا، جسم میں زخم والا ہونا۔ تَسَلَّعَ عقبُہُ :کی ایڑی کا پھٹنا۔ انْسَلَعَ :پھٹنا۔ السَّلْع جمع سُلُوع : (واحد سَلْعة) پاؤں کی پھٹن۔ والسِلْع فی الجبل جمع أَسْلاَع وسُلُوع :پہاڑ کی دراڑ۔ السَّلْعَة والسَّلَعَةُ جمع سَلَعَات و سِلاَع :جلد کو پھاڑ دینے والا زخم۔ الأسْلَع م سَلْعَاء جمع سُلْع : پھٹے پاؤں والا۔ المِسْلَع: گائڈ (راستہ بتانے والا) المَسْلُوع: پھٹی جلد والا، جسم پر پھوڑے والا۔

۲۔ سَلَعَ ۔سَلْعًا جلدَہُ بالنار : کھال کو آگ سے جلا کر داغ دار کرنا۔ سَلِعَ ۔سَلَعًا الرجُلُ :برص کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ برص والا ہونا۔ السَّلَع :جلد پر آگ کے داغ۔ الاسْلَع م سَلْعَاء جمع سُلْع :برص کی بیماری والا جسم پر جلنے کے نشانوں والا۔

۳۔ سَلَّعَ ہُ :پر ایلوا لگانا۔ السَّلَع : ایلوا کی ایک قسم۔ السوکَع :کڑوا ایلوا۔ کہتے ہیں۔ ھو امرُّ من السولَع :وہ ایلوے سے زیادہ کڑوا ہے۔ المُسَلَّع: وہ چیز جس پر ایلوا درخت کی ٹہنیاں لٹکائی گئی ہوں۔

۴۔ السَّلْع و السِّلع :مثل، ہم عصر، ہمجولی کہتے ہیں۔ ھذا سِلْعُ ذاك :یہ اس جیسا ہے۔ غلامان سلعان : دونوں ہم عمر لڑکے اور اسی طرح۔ غلمانٌ أَسلاع : ہم عمر لڑکے۔ السِلْعَة جمع سِلَع : سامان، تجارت کا مال۔ ـــ والسَّلْعَة و السَّلَعَة و السِلَعَة (ح) : جونک، پھوڑا، غدود۔ الاسْلَع م سَلْعَاء جمع سُلْع : کبڑا۔ السَلِیعة: طبیعت کہتے ہیں۔ انہ لکریم السلیعة :وہ سخی طبیعت والا ہے۔ سُمٌ مُسَلَّع : بہت تیز زہر۔

۵۔ السِلْعام :فراخ حلق والا، بڑے پیٹ والا، لمبی ناک والا (ح) بھیڑیا۔

۶۔ سَلْعَنَ فی عدوہ :بہت تیز دوڑنا۔

◯ سَلْطَنَة : سلطنت Sultanate

سلطان: قوت، طاقت، زور، حکم، فرمانروائی، تسلط، اختیار، اتھارٹی، جواز (کے لئے) (سلطان (مطلق) حاکم (جمع سلاطین) ما انزل (اللّٰہ) بہ من سُلطان : لاحاصل، بے بنیاد، خود مختارانہ۔ من مانہ فیصلہ۔ سلطانة :سلطانہ سلطان کا مونث۔ سلطانی :سلطان کا، سلطان شاہی۔ طریق سلطانی : شاہی ہائی وے۔ سلطانیہ : پیالہ، کاسہ۔

سَلِعَ ۔سَلْعًا :درز پڑنا، تڑی دار ہونا، دراڑ پڑنا۔ انْسَعَلَ :پھٹنا، ٹوٹ کر کھل جانا۔ سَلْع جمع سُلُوع : درز، دراڑ، شگاف، افتراق۔ سِلْعَة جمع سِلَع :چیز سامان تجارت، تجارتی مال۔

سلغ ۱۔ سَلَغَ ۔سَلْغًا رأسَہُ :کا سر کچلنا۔ ۔ سُلُوغاتِ البقرةُ او الشاةُ :گائے یا بکری کا کچلیاں نکالنا صفت سالغ۔ الأسْلَغ :گہرا سرخ، برص کا مریض، کمینہ، لئیم۔ و۔ من اللحم :کچا گوشت۔

۲۔ سَلْغَفَ ہُ : کو نگلنا۔

سلف ۱۔ سَلَفَ ۔سَلْفًا الأرضَ :زمین کو کاشت کے لئے سہاگے سے برابر کرنا۔ سَالَفَ ہُ فی الأمر : سے کسی معاملہ میں برابری کرنا۔ و ۔ ہُ فی الارض : زمین پر کسی کے ساتھ ساتھ چلنا۔ أسْلَفَ الأرضَ : زمین کو زراعت کے لئے سہاگے سے ہموار کرنا۔ ارضٌ سَلِفَة: کم درختوں والی زمین۔ السُّلْفَة: سہاگے سے ہموار شدہ زمین۔ المِسْلَفَة(ن) : سہاگہ، میڑا، پنگا، پراون

۲۔ سَلَفَ ۔سَلْفًا المزادةَ :مشک پر تیل لگانا۔ السلف جمع سُلُوف وأسْلُف : چمڑے کا تھیلا، توشہ دان۔ السِلْفِ جمع أَسْلاَف: چمڑا، کھال۔ السَلِف جمع اَسْلاف :چمڑا، کھال۔ السُّلْفة :موزوں کا باریک چمڑے کا استر۔

۲۔ سَلَفَ ۔سَلَفًا و سُلُوفًا :گزر جانا، آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔ آپ کہتے ہیں۔ سلف لہ عملٌ صالحٌ: وہ عمل صالح کر چکا ہے۔ سَلَفَ القوم :وہ لوگوں سے آگے بڑھ گیا، ان پر سبقت حاصل کی۔ سَلَّفَ الشیءَ :کو پیشگی دینا۔ الضیف :مہمان کے سامنے ناشتہ لانا۔ الرجُلُ :ناشتہ کھانا۔ سَالَفَ الجملُ : اونٹ کا آگے بڑھنا۔ تَسَلَّفَ الرجُلُ :آدمی کا ناشتہ، کھانا۔ السَّلَف :عمل صالح، چھوڑا ہوا سود۔ و جمع أسلاف : آباؤ واجداد۔ مَذَاھبُ السلفِ: متقدمین کے طریق عمل۔ رجلٌ سَلِفٌ جمع اَسْلاف: آگے جانے والا۔ السُّلْفَة جمع سُلَف : ناشتہ، متقدمین کا گروہ، گزری ہوئی جماعت کہتے ہیں۔ جاؤوا سُلْفَةً سُلْفَةً : وہ یکے بعد دیگرے آئے۔ السُّلاف جمع سُلاَفات :نچوڑ سے پہلے بہہ جانے والا انگور کا رس جو بہترین شراب ہوتی ہے۔ سُلافُ العسکر :فوج کا ہر اول دستہ۔ مقدمة الجیش۔ السُّلاَفة ج سُلافات: بمعنی سُلاف۔ سُلافة کل شیء عصرتہُ :ہر نچوڑی ہوئی چیز کا اول۔ السَالِف (فا) جمع سَلَف و سُلاّف : ماضی، گزشتہ، گزرا ہوا متقدم آپ کہتے ہیں۔ کان ذلك فی سالفِ الأیام : یہ گزشتہ دنوں میں ہوا۔ السَالِفة جمع سَوَالِف گزری ہوئی، گردن کے اگلے حصہ کا پہلو جو کان کی بالی کے پاس ہوتا ہے۔ سالفةُ الفرسِ :گھوڑے کی گردن کا سامنے کا حصہ۔ السَّلُوف من الابل جمع سَلَف : گھاٹ پر جاتے ہوئے سب سے آگے رہنے والا اونٹ۔ ـــ من الخیل :تیز رو گھوڑا۔ سهمٌ سَلُوفٌ :لمبا تیر۔ السَلِیف جمع سُلُوف : آگے ہونے والا، جماعت متقدمین۔ المُسْلِف :تقریباً پینتالیس سالہ عورت۔

۴۔ سَلَّفَ ہُ مالاً :کو (کچھ رقم) قرض دینا۔ اسْلَفَ ہُ مالاً: کو (کچھ رقم) قرض دینا۔ ـــ فی الشیء :بیع سلم کرنا۔ تَسَلَّفَ و اِسْتَلَفَ المالَ :(کچھ) قرض لینا۔ اسْتَسْلَفَ المال :کچھ قرض لینا۔ السَّلَف: بے سود کا قرض، قرض حسنہ۔

۵۔ تَسَالَفَ الرجلان :آپس میں ہم زلف ہونا۔ سِلفان ایک دوسرے کے ہم زلف۔ سِلْفُ الرجل جمع

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

أَسْلاف: ہم زلف۔ السَّلِف جمع اَسْلاف: ہم زلف۔ الاُسْلُوفَۃ: سسرال کا تعلق، شادی کے ذریعے رشتہ داری۔ دامادی۔ بینھم اُسْلُوفۃ: ان کے درمیان رشتہ داری ہے۔

۲۔ السُّلَف جمع سِلْفان و سُلْفان (ح): چکور کا چوزہ۔

○ سَلَّفَ ہ: کو ادھار دینا قرض دینا (ہ کچھ) سَلَّفَ ہ: کو ادھار دینا، قرض دینا (ہ کچھ) سَلَّفْنَا (القول): ہم پہلے کہہ چلے ہیں، ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ کما اَسْلَفْنا: جیسے ہم پہلے بیان کر آتے ہیں، کہہ چکے ہیں۔ تَسَلَّفَ: (ہ کچھ) ادھار لینا، قرض لینا (من سے)۔ سِلْف جمع اَسْلاف: بہنوئی۔ سِلْفَہ: سالی۔ سَلَف و اسلاف: پیشرو، باپ دادا، آباؤ اجداد۔ سَلَف: پیشگی ادائیگی، پیشگی، بے سود قرضہ، قرض حسنہ۔ سلفاً: پیشگی، پہلے ہی سے، قبل۔ سلفیۃ: جمع سلفیات: قرض حسنہ، پیشگی رقم۔ السَّلَفِیۃ: مصر میں ایک اسلامی، اصلاحی تحریک، جس کی بنیاد محمد عبدہ نے رکھی (۱۸۴۹-۱۹۰۵) سُلْفَۃ جمع سُلَف: قرض، پیشگی رقم، جوتوں کا اندر کا استر، اندرونی تلا۔ سُلاف: بہترین شراب۔ مِسْلَفَۃ: سہاگہ۔ تسلیف: کریڈٹ، اڈوانس۔ سعرُ التسلیف: شرح سود۔ بنك التسليف: کریڈٹ بینک۔ سالِفاً: پہلے، پہلے زمانہ میں۔ سَوالِف الاحداث: گزشتہ واقعات۔ سالِف الذکر: مذکورہ بالا۔

سُلْفات: سلفیٹ Sulfate

سلق: ا۔ سَلَقَ ۔ سَلْقًا البیضَ او لبقلَ: انڈے یا سبزی کو پانی میں جوش دینا۔ ابالنا۔ ہ بالسوطِ: کو کوڑوں سے مار مار کر کھال ادھیڑنا۔ المزادۃ: مشک یا توشہ دان پر تیل لگانا۔ اللحمَ عن العظم: ہڈی پر سے گوشت چھیلنا۔ السِلْقۃ جمع سِلَق و سِلْق (ح): بھیڑیے کی مادہ۔ الشیء بالماء الحار: گرم پانی سے کسی چیز کے بال اتارنا۔ الدابۃُ الراکبَ: جانور کا سوار کی ران کو اندر کی جانب سے چھیل دینا۔ البردُ النبات: پودوں کو پالا کا مارنا، جلانا۔ ت القدمُ فی الطریق: قدموں کا راستہ پر نقش بنانا۔ اَسْلَقَ الرجلُ: آدمی کا بھیڑیے کی مادہ کا شکار کرنا۔ اِنْسَلَقَ اللسانُ: زبان کا چھل جانا۔ السَّلْقُ و السَّلَق: زخم کا نشان۔ السِّلْق (ن): چقندر۔ جمع سُلْقان و سِلْقان (ح): بھیڑیا۔ السُّلاق: زبان کی جڑ میں نکلنے والی پھنسیاں، دانتوں کی جڑوں کی خراش و چھلن، پپوٹوں کی سرخی موٹائی اور زخم۔ السُّلاقۃ: دواؤں کا جوشاندہ۔ السَّلائق: راستہ پر قدموں اور ٹاپوں کے نشانات و آثار۔ السَّلِيق جمع سُلُق: چھوٹے چھوٹے گرے ہوئے درخت۔ السَّلِیقۃ: ابلی ہوئی سبزی۔ السَّیْلَق (ح): تیز رفتار اونٹنی۔

۲۔ سَلَقَ ۔ سَلْقاً ہ: بالکلام: کو بات سے ایذا دینا۔ سَلَقَہُ بالسِنۃٍ حِدادٍ: کو بہت ایذا دینا، تلخ زبان سے طعنے دینا۔ ہ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ العُودَ فی العروۃ: کسی چیز کے دستہ میں لکڑی لگانا (کسی چیز کو لکڑی کا دستہ لگانا) اَسْلَقَ العودَ فی العروۃ: کسی چیز کے دستہ میں لکڑی لگانا۔ سَلْقَی ہ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ السِّلِقَّۃ: زبان دراز، فاحشہ عورت۔ السَّالِقۃ من النساء جمع سَوالِق: مصیبت کے وقت اونچی آواز میں رونے اور اپنے چہرہ پر تھپڑ مارنے والی عورت۔ السَّلاق: بدزبانی۔ السَّلاّق: اسم مبالغہ۔ خطیب سَلاّق و مِسْلَق و مِسلاق: فصیح و بلیغ خطیب۔

۳۔ سَلَقَ ۔ سَلْقًا الرجلَ: کو چت گرا دینا آپ کہتے ہیں۔ اَخَذْتُہُ فَسَلَقْتُہُ لِقفاہ: میں نے اسے پکڑ کر چت گرا دیا۔ تَسَلَّقَ: چت سونا۔ علی فراشہ: درد یا غم سے بستر پر بے چین و بے قرار ہونا۔ سَلْقَیتُہ سِلْقاءً فاسْتَلْقی اِستِلقاءً و اسْلَنْقَی اسْلِنقاءً: میں نے اسے پیٹھ کے بل گرایا تو وہ چت سو گیا۔ (یہ افعال فَعْلَی و افتعلی و افعنلی کے وزن پر ہیں اور یہ رباعی کے ملحقات کے اوزان ہیں)

۴۔ سَلَقَ ۔ سَلْقًا الرجلَ: دیوار پر چڑھنا۔ تَسَلَّقَ الجدارَ: دیوار پر چڑھنا۔ السَّلُوقِیَّۃ: جہاز کے کپتان کے بیٹھنے کی جگہ۔ السُّلاّق: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود کی عید۔

۵۔ سَلِقَ السَّلِیقۃَ و علیہا: سلیقہ پر پیدا کیا جانا۔ السَّلِیقۃ جمع سَلائق: طبیعت۔ السَّلِیقِیَّۃ: سلیقہ کی طرف منسوب کہتے ہیں۔ فلانٌ یتکلّم بالسلیقہ: یعنی فلاں شخص سیکھنے سے نہیں بلکہ اپنی طبیعت سے بولتا ہے۔

۶۔ السَّلَق جمع اَسْلاق و سُلْقان و سِلْقان: ہموار عمدہ زمین، نشیبی مٹی، کشادہ راستہ۔ السِلْق جمع سُلقان و سِلقان: پانی بہنے کا راستہ۔ السِلْقۃ (ح): ٹڈی جو انڈے دے چکی ہو۔ السَّلِیق ج سُلُق: چھتے کی لمبائی میں شہد کی مقدار۔ سَلِیقُ الطریق: راستہ کا پہلو۔ السَّلُوقِیّ و السَّلاقِیّ من الکلاب: ایک قسم کا شکاری کتا، تازی کتا۔ السَّلُوقِیَّۃ: سلوقی کا مونث۔ من الدروع: یمن میں ایک بستی سلوق نامی کی طرف منسوب زرہ۔

○ سَلَقَ ۔ سُلُقًّا ہ: کی کھال کوڑے سے چیرنا، پھاڑنا۔ ۔۔ ہ: کو گرم پانی سے علیحدہ کرنا ہ: کو ابالنا، پانی میں جوش دینا، ابلتے پانی میں پکانا۔ -- ہ: (سخت گرمی کا) پودوں کو جلا دینا۔ ہ بلسانہ: کو اپنی زبان سے ایذا پہنچانا۔ تَسَلَّقَ ہ: پر چڑھنا، کا چھلکا، خول، پوست یا پرت اتارنا۔ السلاق: رفع مسیح۔ سَلاقَۃ: شدید سخت زبان، بدزبانی۔ سلیقہ جمع سلائق: پیدائشی، جبلی خلقی مزاج، افتاد طبع، جبلت، حیوانی عقل۔ سَلْقُون و سلاقون: سندور، شنگرف۔ سَلُوقی: شکاری کتا۔ مَسْلُوق: پکایا ہوا، ابالا ہوا گوشت، انڈہ، سبزی۔ مَسْلُوقَۃ جمع مَسالیق: یخنی بالنباتات

المُتَسَلِّقَۃ: بیلیں (Creepers)

سلك: ا۔ سَلَكَ ۔ سَلْكًا و سُلُوكًا المكانَ: جگہ میں داخل ہونا۔ الطریقَ: راستہ پر چلنا۔ الشیءَ فی الشیءِ: کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا جس طرح دھاگا سوئی میں داخل کیا جاتا ہے۔ ہُ المکانَ و سلکہ فیہ: کو کسی جگہ داخل کرنا۔ سَلَّكَ ہُ المکانَ وفیہ و علیہ: کو کسی جگہ میں داخل کرنا۔ الغزلَ: چرخے پر سوت لپیٹنا۔ اَسْلَكَ الشیءَ فی الشیءِ: کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، ڈالنا، جیسے دھاگا سوئی میں ڈالا جاتا ہے۔ ہُ المکانَ و فیہ و علیہ: کو کسی جگہ میں داخل کرنا۔ اِنْسَلَكَ فی الشیء: کسی چیز میں داخل ہونا۔ السِّلْك جمع سُلُوك و اَسْلاك: (دھاگے کی لڑی) السلك الدبلوماسی: تمام غیر ملکی سفیر۔ السلك الکھربائی: بجلی کا محکمہ، کہتے ہیں۔ دخل السلك العسکری: وہ فوج میں چلا گیا۔ اللاسلکی: وائرلیس، بے تار برقی۔ السِّلْکۃ جمع سِلَك و جمع الجمع اَسْلاك و سُلُوك: بھلائی کے کام کا دھاگا۔ السُّلْکی: نیزہ کی سیدھی ضرب کہتے ہیں۔ امرھم سُلْکی: ان کا کام ایک ہی طریقہ پر ہے۔ المَسْلَك جمع مَسالِك: راستہ۔ المَسْلَکۃ: کپڑے کے کنارہ سے پھاڑ ہوا ٹکڑا۔ المِسْلَکۃ: چرخہ۔

۲۔ السُّلَك م سُلَکۃ جمع سِلْکان (ح): بھٹ تیتر یا چکور کا چوزہ۔ المُسَلَّك: نحیف، پتلا، نازک۔

○ سِلْك جمع اَسْلاك: دھاگا، ڈوری، رسی، تسلی، تار (موسیقی کے آلات کا تار) ریل، تنظیم، جسم، پیشہ، پیشہ ورانہ شعبہ، کور (Corps) سلك الارض یا السلك الأرض: زمینی تار Ground wire اسلاك بحریۃ: سمندری کیبل۔ السلك الحراری: بلب کا تار، ریڈیو ٹیوب کا تار۔ السلك المتحکم:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(ریڈیو ٹیوب کا) گرڈ Grid (رجال) السلك السیاسی: ڈپلومیٹک کور۔ سلك الشرطة: پولس السلك الشائك: خاردار تار۔ سلك الانصهار الواقی: فیوز Fuse السلك التعلیمی: تدریسی پیشہ، اساتذہ۔ سلك القضاء: عدلیہ نظام عدالت، ملک کے تمام جج (judi cature , judiciary) السلك المقاوم: ریسسٹر Resister (بجلی) السلك الهوائی: انٹینا، ایریل۔ سلکی: تار کا، بذریعہ تار۔ لاسلکی: وائرلیس، ریڈیائی ریڈیو براڈ کاسٹنگ (صفت و اسم) ریڈیو گرام، ریڈیو سپیشلسٹ۔ اشارة لاسلکیة: ریڈیائی پیغام۔ عامل لاسلکی: ریڈیو اوپریٹر۔ سِلکة جمع سِلك: تار، دھاگا، تار (بجانے والا) سلوك: رویہ، طرز عمل، سلوک، برتاؤ، تمیز، شائستگی، طور طریقہ، چال چلن، سجاوہ۔ حسن السلوك: اچھا رویہ، طرز عمل، اچھی تمیز، شائستگی۔ قواعد السلوك: یا آداب السلوك: آداب محفل، مجلسی آداب۔ مَسْلَك جمع مَسَالك: سڑک، راستہ، طریق عمل یا پالیسی، طریقہ کار، طریقہ۔ المسالك البولیه: پیشاب کے گزرنے کے راستے۔ مَسَالِكُ الهواء: سانس لینے کی گزرگاہیں۔ مَسْلَکی: پیشہ ورانہ، صنعتی، تجارتی۔ سَالِك جمع سَالِكون: روحانی راستہ پر چلنے والا۔

سلم: ۱۔ سَلِمَ۔ سَلامَةً و سَلامًا من عیب او آفة: کسی عیب یا آفت سے نجات پانا، چھٹکارا پانا، یا بری ہونا۔ ۔ لهُ المالُ: کے لئے مال کا مخصوص ہونا۔ کہتے ہیں: لابِذی تَسْلَمُ ما كان كذا۔ (نہیں، اس ذات کی قسم جو تمہیں محفوظ رکھتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ اور مخاطب کے تثنیہ و جمع، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے کہتے ہیں بِلذی تسلمان و تسلمون و تسلمین اور علی هذا القیاس اِذْهَبْ بذی تسلم سلامتی کے ساتھ جاؤ۔ سَلَمَ۔ سَلْمًا الدلوَ: ڈول بنانے سے فارغ ہونا، ڈول مضبوط بنانا۔ سَلَّمَ وسَلَّمَ علیه: کو سلام کرنا، کو سلام علیک کہنا۔ ۔ ہُ من الآفة: کو آفت سے بچانا۔ ۔ بالامر: پر راضی ہونا۔ الیه: کا فرمانبردار ہونا۔ ۔ الشیءَ: چیز کو خالص کرنا۔ سَالَمَهُ: سے صلح کرنا، مصالحت کرنا۔ أَسْلَمَ: مطیع و فرمانبردار ہونا، مسلمان ہونا۔ العدوَّ: دشمن کا ساتھ چھوڑ دینا۔ امرهُ الی اللّه: اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، جب آپ کسی کو ایسے شخص کے بارے میں اختیار دے دیں جو اسے تنگ کرنا چاہتا ہے کہ جو مناسب سمجھے کرے تو کہتے ہیں۔ اَسْلَمْتُهُ و سَلَّمْتُهُ۔ تَسَلَّمَ: مسلمان ہو جانا۔ تَسَلَّمَ منه: سے بری ہونا، بیزار ہونا۔ تَمَسْلَمَ: مسلمان کہلانا۔ تَسَالَمَ القومُ: مصالحت کرنا آپس میں اتحاد و اتفاق کرنا۔ ت الخیلُ: بغیر لڑائی جھگڑائی کے گھوڑوں کا ساتھ ساتھ چلنا۔ اِسْتَلَمَ الحجرَ الأسودَ: حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا یا منہ سے چومنا۔ استلمتُ یدَهُ: میں نے اس کے ہاتھ کو چھوا اور چوما۔ اِسْتَسْلَمَ: مطیع و فرمانبردار ہونا۔ السَّلْم (مص): (بمعنی سِلْم) جمع اَسْلُم و سِلام: ایک کڑے والا ڈول۔ قومٌ سَلْم: صلح کن لوگ۔ السِلْم: صلح کرنے والا۔ کہتے ہیں۔ انا سِلْمٌ لمن سالمنی و حربٌ لمن حاربنی: میں صلح کرنے والے کے لئے صلح جو اور لڑنے والے کے لئے جنگ جو ہوں۔ الاسلام: صلح، سلامتی۔ السَلَم: سلامتی، تابعداری، قید، قیدی۔ السَلام (مص): تسلیم کا اسم، سلام، طاعت و فرمانبرداری کے لئے جھکنا (ایک آیت میں ہے۔ السلام علی من اتبع الهدی: یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلے گا وہ اس کے عذاب اور ناراضگی سے بچا رہے گا)۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام۔ کیونکہ اسکی ذات تمام عیوب (نقائص سے پاک و بری ہے) دار السلام: جنت مدینة السلام: بغداد نهر السلام: دجلة، السَلامَة (مص): عیوب و آفات سے پاکی اور بریت۔ السَلِمَة جمع سِلام: پتھر۔ السَلِیم جمع سَلْمَی: سخت زخمی، قریب الموت۔ جمع سُلَماء: آفات سے بچا ہوا اور محفوظ کہتے ہیں۔ فلانٌ سلیم القلب و سلیم النیة: یعنی وہ صالح ضمیر والا ہے۔ الأَسْلَم م سُلْمَی: سالم سے اسم تفضیل آفات سے محفوظ شخص کے لئے، بمعنی زیادہ محفوظ، محفوظ تر۔ سُلَیمی: کہتے ہیں۔ طَوَتْهُم سُلیمی (اسم تصغیر): مراد وہ لوگ جو مر گئے۔ زمین نے انہیں اپنے اندر چھپا لیا۔ الاسلام: اللہ کے حکم کے سامنے بلا چون و چرا سر جھکا دینا، دین اسلام، کبھی مسلمانوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی اہل الاسلام کے معنی میں۔ التسلیم (مص) عند ارباب السیاسة: جنگ بند کرنا اور فاتح کی اطاعت قبول کرنا۔ المُسلم: جمع مُسلمون م مُسلِمَة جمع مُسلمات دین اسلام کا متبع۔

۲۔ سَلَمَ۔ سَلْمًا ته الحیّةُ: کو سانپ کا ڈسنا۔ اُسْلِمَ: کو سانپ کا ڈس لینا۔ اُسْلِمَ: کو سانپ کا ڈس لینا۔ السَلِیم جمع سَلْمَی: سانپ کا ڈسا ہوا۔ السُلَیمانی: ایک قسم کا زہر جو پارہ سے تیار کیا جاتا ہے۔

۳۔ سَلَمَ [illegible] الجلدَ: چمڑے کو [illegible] سے رنگنا۔ السَلَم (واحد سَلَمَة): کا واحد (ن) ایک خاردار درخت جو گرم ممالک میں اُگتا ہے جس کے پتے چمڑے رنگنے میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ ارضٌ مَسْلُوءَاء: وہ زمین جہاں سَلَم کے درخت بکثرت پائے جائیں۔

۴۔ سَلَّمَهُ الشیءَ: کو کوئی چیز دینا۔ ہُ الی فلان: فلاں کو دینا یا اس کے سپرد کرنا۔ تَسَلَّمَ الشیءَ: چیز لینا، چیز پر قبضہ کرنا، چیز کو قبضہ میں لینا۔

۵۔ اِسْتَلَمَ الزرعُ: کھیتی کا خوشہ نکالنا۔

۶۔ السَّالِم: آنکھ اور کان کے درمیان کی کھال۔ السَّلام و السِّلام: جس کا واحد سَلامًا اور سِلامَة ہے (ن): کڑوے ذائقہ کا ایک درخت۔ السَلِمَة: نرم ہاتھ پاؤں والی عورت۔ السُلَّم جمع سَلالِم و سَلالِیم: سیڑھی (مذکر و مونث) کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب کہتے ہیں۔ اِتَّخَذَهُ سُلَّمًا الی حاجته: اس نے اسے اپنی حاجت روائی کا وسیلہ یا ذریعہ بنایا۔ السلامَی: جنوبی ہوا۔ السُلامَی جمع سُلامِیات: ہر کھوکھلی چھوٹی ہڈی جیسے انگلیوں کی ہڈیاں۔ الأُسَیلِم (ع ا): چھنگلیا اور اس کے اور بیچ کی انگلی کے درمیان کی رگ۔

۷۔ السَلْمُون (ح): میٹھے اور کھاری پانیوں میں رہنے والی ایک قسم کی بڑی مچھلی۔

○ سَلَّم اَمرہ الی اللّه: اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا۔ سَلَّم روحه: جان جان آفرین کے سپرد کرنا، جان دینا، مر جانا۔ سَلَّم نفسَهُ الاخیرَ: آخری سانس لینا، موت کے شدید درد میں مبتلا ہونا، حالت نزع میں ہونا۔ سَلَّم نفسه للبولیس: اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا۔ سَلَّم الیه علی الحُسنی و الاساءة: اپنے آپ کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ سَلِّم لی علیه: کو میرا سلام کہنا۔ صلّی اللّه علیه و سلّم: اللہ آپ کو خوش رکھے اور بخشش عطا فرمائیے۔ (رسول کریم کے متعلق ہے) أَسْلَمَ رأسه الی رُكْبَتَيهِ: اپنا سر گھٹنوں میں لینا۔ اَسْلَمَ للّه: راضی برضا الٰہی ہونا۔ اَسْلَمَ امرہُ الی اللّه: اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا۔ اَسْلَم روحه (الروح): جان دینا، جان جان آفریں کے سپرد کرنا۔ تسلّم مقالید الحکم: اقتدار سنبھالنا۔ سِلم: (مذکر و مونث) امن، سلامتی، دین اسلام۔ حُبُّ السلم: امن پسندی۔ سِلمی: امن پسند، جنگجوئی کے خاتمہ کا حامی۔ سُلَّم متحرّك: رواں زینہ۔ سلام جمع سلامات: سلام، سلامی، فوجی سلامی، قومی ترانہ۔ السلام العام: بہبود عامہ، عام

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خوشحالی، رفاہ عام، رفاہ عامہ۔ یاسلام: خدا کی پناہ، خدا پناہ، توبہ، ارے توبہ۔ معاذ الله: Good Lord! good heavens, oh dear! یاسلام علی: کتنے افسوس کی بات ہے کہ.....کیا خوب ہے کہ بَلِّغْ سلامي اليه: کو میرا اسلام دینا۔
سَلَامْلِك: (ترکی لفظ) کمرہ استقبال، بیٹھک، دیوان۔
السلامة الاجماعيه: اجتماعی حفاظت، ضمانت، کفالت۔
سلامة الذوق: عمدہ ذوق۔ سلامةُ (املاكِ) البلاد: ملک کی سالمیت۔ سلامة النية: نیت کا خلوص، خلوص نیت۔ بسلامة النية: واقعی خلوص سے نیک نیتی سے، خلوص سے، صدق دلانہ۔ مع السلامة: خداحافظ، الوداع۔ سليم البُنية: صحت مند، تندرست۔ سليم العقل: ہوشمند۔ سليم القلب: بے ریا، مخلص، نیک طبیعت۔ ذوق سليم: عمدہ ذائقہ، ذوق۔ اسلم: محفوظ تر، زیادہ آزاد، زیادہ صحت مند۔ سليمان: سلیمان (ایک نبی کا نام) حوت سليمان: سامن مچھلی۔ اِفادة الاستسلام: وصول کی اطلاع۔ مُسَلَّم و مُسَلَّم به: تسلیم شدہ، ناقابل تردید۔ مُسْتَلِم: وصول کنندہ، جسے مال بھیجا جائے، مرسَل الیہ۔
سِلَنْدَر جمع سلندرات: سلنڈر Cylinder
سَلَمُون: ایک بڑی مچھلی کی جنس جو میٹھے اور نمکین پانی میں رہتی ہے۔ سلن: السِلِينُوس (ن): ایک قسم کا پھول۔

سلهب: اِسْلَهَبَّ الفرسُ: گھوڑے کا لمبا ہونا۔ السَلْهَب جمع سَلَاهِب و سَلَاهِبَة: لمبا۔ السَلْهَبَة من النساء: بڑے قد و قامت کی عورت، جسیم عورت۔

سلا: ا۔ سَلَا - سَلْوًا و سُلُوًّا و سُلْوانًا و سَلِيَ - سُلِيًّا الشيءَ و عنه: چیز کو بھول جانا، سے تسلی پانا، سے توجہ ہٹنا۔ سَلَّى تَسْلِيَةً فلانًا عن الشيء: کو کسی چیز کے بارے میں تسلی دینا۔ ؤ عن همه و منه: کا غم دور کرنا۔ أَسْلَى إِسْلاءً القومُ: درندوں سے امن میں ہونا۔ ؤ عن همه: کا غم دور کرنا۔ تَسَلَّى تَسَلِّيًا: تکلف سے تسلی کا اظہار کرنا، تسلی پانا کہتے ہیں۔ سَلَّاه و أَسْلَاه فتسلَّى: اس نے اسے تسلی دی اور اس کا غم دور کیا تو اسے تسلی ہوگئی۔ تَسَلَّى الهمُّ: غم دور ہونا۔ اِنْسَلَى الهمُّ: غم دور ہونا۔ السُلْوَة والسَلْوَة: تسلی کہتے ہیں۔ هو في سَلْوَةٍ من العيش: وہ آسودہ حالی میں ہے۔ اسْقِنِي سَلْوَةً من نفسك: (میں نے تجھ سے وہ چیز دیکھی جس سے مجھے تسلی ہوگئی) السُلْوان (مص) والسُلْوانة والسَلْوانة: ایک قسم کا مہرہ جس کو نظر بد سے بچنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ السَلْوَى: ہر تسلی بخش چیز، شہد۔ المَسْلاة: تفریح گاہ، تفریح کی چیز، تفریح، تسلی، تسکین۔
۲۔ استلى إستلاءً ت الشاةُ: بکری کا فربہ ہونا۔
۳۔ السَلْوى جس کا واحد سَلْوَاة ہے۔ (ح) لوا: اس پرندہ کو سمانی بھی کہتے ہیں۔ المُسَلِّي: گھوڑ دوڑ کا تیسرا گھوڑا۔
۴۔ السَلُولُوز (ك): دیکھو خلیوز

سلى: سَلِيَ - سَلًى ت الشاةُ: (بکری کا) ٹوٹی ہوئی جھلی والی ہونا۔ صفت سَلْيَاء سَلَّى الشاةَ: بکری کی جھلی نکالنا۔ أَسْلَى ت الشاةُ: بکری کا جھلی ڈالنا۔ السَلَى جمع أَسْلاء: جھلی۔ کہتے ہیں۔ انقطع السَلَى في البطن: اب حیلہ جاتا رہا اور مصیبت بڑھ گئی۔ هو آكل الأسلاء: وہ بہت خسیس و کمینہ ہے۔
۲۔ السِلِيلُوِيد: مسالہ: سلولائید
سَلْوَى: اسم جنس واحد سلواة جمع سلاوی: بٹیر quoil مُسَلٍّ: دلچسپ، تسلی دہ، ڈھارس بندھانے والے، موجب تسلی۔ سلوفينيا: Slovenia
مُسْلِي: پکانے کا مکھن۔ مُسْلِي نباتي: نباتاتی مکھن۔

سمّ: ا۔ سَمَّ - سَمًّا ہُ: کو زہر پلانا۔ ـــ الطعامَ: کھانے میں زہر ملانا۔ سَمَّمَ الطعامَ: کھانے میں زہر ملانا۔ السُمّ والسَمّ والسِمّ جمع سِمام و سُمُوم: زہر۔ سُمُّ السَمَك (ن): ایک پودے کا زہریلا مادہ جو مچھلی کو قتل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سُمُّ الحمار (ن): کینیر۔ سَمُّ ساعة: فوراً ہلاک کردینے والا زہر۔ السَّامّ: زہریلا۔ سامُّ أبرص و سَمُّ أَبْرص: تثنیہ ساما ابرص جمع ابارص و سوام ابرص (ح): چھپکلی۔ اس ابی بُرَيص بھی کہتے ہیں۔ السامَّة: مونث سام۔ سُمِّيَّةُ الشيء: چیز کا زہریلا اثر۔
۲۔ سَمَّ - سَمًّا القارورةَ: بوتل کو بند کرنا۔ ـــ الشيءَ: چیز کی اصلاح کرنا، درست کرنا۔ ـــ بينهما: دونوں کے درمیان صلح کرانا۔ الامرَ: معاملہ کی تہہ تک پہنچنا، آزمائش کرنا، جانچنا۔ کہتے ہیں۔ اصابَ سَمَّ حاجتِه: یعنی اس نے اپنا مقصد حاصل کرلیا۔
۳۔ سَمَّ - سَمًّا النعمةَ اليه: کے لئے نعمت مخصوص کرنا۔ ـــ الشيءَ: سب کو عام کرنا یہاں تک کہ خواص تک پہنچ گئی۔ السامَّة: خاص۔ کہتے ہیں۔ عرف ذلك السامةُ والعامةُ: اس کو عام خاص سب لوگ جانتے ہیں۔ السُمَّة جمع سُمَم و سِمام: رشتہ داری، قرابت۔ اهل المَسَمَّة: انسان کے خاص اور اقارب۔
۴۔ سَمَّ - سُمُومًا تِ الريحُ: ہوا کا جھلسانا۔ سُمَّ اليومُ: دن کا شدید گرمی والا ہونا، دن کا گرم ہوا والا ہونا۔ ـ النباتُ: پودے کا ہوا سے جھلس جانا۔ صفت مسموم۔ أَسَمَّ اسْمامًا اليومُ: دن میں باد سموم چلنا۔ السَمُوم جمع سَمائِم: گرم ہوا، لو (مونث)۔ يومٌ سامٌّ و مُسِمّ و مَسْمُوم: جھلسا دینے والا دن۔ وہ دن جس میں باد سموم چلے۔
۵۔ السُمّ جمع سِمام و سُمُوم: سوراخ جیسے سوئی کا ناکہ۔ جمع مَسام (ن) پتوں کے باریک سوراخ جس سے وہ سانس لیتے ہیں اور ان کا پسینہ نکلتا ہے۔ المسام من الجلد (ع ا): جلد کے باریک باریک مسامات و سوراخ۔ السَمّ: ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سمندر سے نکلے مثلاً سنکھ، گھونگا۔ ـــ والسِم جمع سِمام و سُمُوم: سوراخ جیسے سوئی کا ناکہ۔ السُمَّةُ جمع سُمَم و سِمام: کھجورے کے پتوں کی چٹائی جو کھجور کے درخت کے نیچے اس مقصد سے بچھائی جاتی ہے کہ اوپر سے گرنے والی کھجوریں اس پر گریں۔ زینت کی خاطر پروئی ہوئی کوڑیاں۔ السَمَام: ہر ہلکی پھلکی اور تیز چیز واحد سَمامَة (ح) ایک چھوٹا پرندہ۔ السِمام والسُمُوم من الانسان: انسان کا منہ، ناک، کان۔ السَمامة: کا بعد انسانی، انسان کی شکل و صورت و وضع قطع۔ (بَهِيُّ السَمَاعَة: خوبصورت شکل و صورت والا)، کھنڈرات، جھنڈا، گھوڑے کی گردن پر کا دائرہ۔ ـ سَمَائم کا واحد: ابابیل کے مانند ایک پرندہ اس کے انڈے ناقابل حصول ہیں۔ اس لئے عرب کہتے ہیں۔ كَلَّفْتَنِي بَيْضَ السَمَائِمِ: یعنی تم نے ناقابل وصول و ناقابل عمل کام کرنا میرے ذمہ لگایا۔ الاسمُّ الانف: تنگ نتھنے والا۔
۶۔ سَمْسَمَ الثعلبُ: لومڑی کا دوڑنا۔ ـ الرجلُ: مرد کا نرم چال چلنا۔ السَمْسَم: (ح) لومڑی۔ بھیڑیا۔ السُمْسُم جمع سَماسِم: سبک آدمی۔ السُماسِم: (ح) لومڑی۔ والسُمْسُمان والسُمْسُماني: سبک مرد، ہر لطیف چیز۔
۷۔ السَمْسَمُ: زہر السُمْسُم: (واحد سُمْسُمَة) (ح): سرخ چیونٹی، چھوٹی چیونٹی۔ السِمْسِم: تل (ن): وہ پودا جس میں تل لگتے ہیں۔ (ح) ایک قسم کا سانپ۔ رجلٌ مُسَمْسَمُ الوجه: وہ شخص جس کے چہرے پر تلوں جیسے نقطے ہوں۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

○ سَمّ جمع سُمُوم و سِمام: زہر، سانپ کا زہر، سوراخ (سوئی کا ناکہ) السُموُمُ البیضاء: سفید بیہوش کرنے والی دوائیں (جیسے کوکاکین، ہیرون وغیرہ) سَمُوم (م) جمع سَمائم: گرم ہوا، لو، گرم ریت کا جھکڑ۔ مَسَام و مَسَامات (جمع) جلد کے مسام۔ مَسامِی: مسام دار۔ مَسامیہ: مسام داری۔ تسمّم: زہریلا ہونا، مسموم کرنا۔ التسمم الدَمَوِی: خون کا زہریلا پن Blood poisoning سام و مسموم: زہریلا۔ مُسِمّ: زہردار۔ سَمَانجونی: نیلا آسمانی، نیلگوں۔

سما: سُئَال الخلّ: سرکہ کا مکھیوں والا ہونا، سرکہ پر مکھیوں کا آجانا۔ السَمَوْاَل (ح) سرکہ کے اوپر کی مکھی، ایک مشہور شہسوار اور جاہلیت کا شاعر جو وفا میں ضرب المثل ہے۔ اوفی من السموال: وہ سموال سے زیادہ وفادار ہے۔

۲۔ اِسمالّ اِء سُمِئلالاً: دبلا و لاغر ہونا۔ — الظِلّ: سایہ کا چھوٹا ہونا اور اونچا ہونا۔ السَمَال و السَمُوال: سایہ۔ المُسْمَئِلّ: بوسیدہ کپڑا۔

سمت: ا۔ سَمَتَ ـُ سَمْتاً: راستہ پر رہنا، راہ راست پر چلنا، گمان سے راستہ پر چلنا۔ — الشیء وَ سَمَتَ نحوَہُ: کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، اسی سے ہے۔ وھُنَّ الی البیتِ العتیق سَوَامِتُ: وہ بیت اللہ شریف کی طرف قصد کرنے والیاں ہیں۔ — لھم: ان کے لئے گفتگو کا رُخ اور رائے مہیا کرنا۔ سَمَّتَ: راستہ پر رہنا۔ سَامَتَہُ: کے مقابل اور آمنے سامنے ہونا۔ تَسَمَّتَ ہُ: کا ارادہ اور قصد کرنا۔ السَمْتُ (مص) جمع سُمُوت: راستہ۔ کہتے ہیں۔ خُذ فی ھذا السَمْتِ: اس راستہ (پر چلنے) کو شروع کرو، اہل خیر کا رویہ (کہتے ہیں۔ ما اَحْسَنَ سَمْتَ فلان: اس کا رویہ کتنا اچھا ہے)۔ لباسوں وغیرہ کا وہ انداز جو عموماً مقبول ہو (عام لوگوں کی زبان میں)۔ سَمْتُ الرأس: (فلک) (علم ہیئت کی اصطلاح میں) آسمان پر وہ نقطہ جو سیدھے کھڑے ہوئے انسان کے سر کے بالکل سیدھ میں ہو۔) سمت القدم، سمتُ الرِجل، نظیر السمت: آسمانی کرہ کا نقطہ جو افق کے نیچے اس جگہ کے شاقول پر واقع ہو۔ اسے نظیر السمت بھی کہتے ہیں۔ سمت کوکب: (فلک) ستارہ کی بلندی اور خط نصف النہار کے دائرہ کی سطحوں کے درمیان واقع زاویہ۔

۲۔ سَمَّتَ للعاطس: چھینکنے والے کے لئے یرحمک اللہ کہہ کر دعا کرنا۔ علی الشیء: پر اللہ کا نام لینا۔

○ سَمْتَ جمع سُمُوت: راستہ، سڑک، انداز، طریقہ۔ اخذ سمتہ الی: کی طرف جانے والی سڑک اختیار کرنا، یا اس پر چل پڑنا۔

سمج: سَمُجَ ـُ سَمَاجَۃً و سُمُوجَۃً: بدشکل ہونا، قبیح ہونا۔ سَمْج و سَمِج و سَمِیج جمع سِمَاج و سَمِجُون و سُمَجَاء سَمَاجَی: بدشکل، قبیح۔ سَمَّجَ ہُ: کو بدشکل یا قبیح بنانا۔ اِسْتَسْمَجَ ہُ: کو قبیح جاننا، سمجھنا۔ السَمْج و السَمِیج: خراب اور بدمزہ دودھ۔

○ سَمِجَ ـَ: بدصورت ہونا، نفرت انگیز ہونا، گھناؤنا، برگشتہ کرنے والا ہونا۔ سَمَّجَ ہ: کو بدصورت بنانا، قابل نفرت بنانا۔ سَمْج جمع سِمَاج و سَمِج جمع سَمَاجی: بدصورت، نفرت انگیز، قابل نفرت، گھناؤ، برگشتہ کرنے والا۔ سَمِیج جمع سِمَاج و سُمَجَاء: مندرجہ بالا معنے۔ سَمَاجَۃ: بدصورتی، نفرت انگیزی، کراہت۔

سمح: ا۔ سَمُحَ ـُ سَمَاحاً و سُمُوحاً و سَمَاحَۃً و سُمُوحَۃً و سَمْحاً و سِماحاً: فیاض و سخی ہونا۔ سَمْح و سَمِیح و مِسْمَح و مِسْمَاح جمع سِمَاح و سُمَحَاء و مَسَامِیح: فیاض و سخی۔ آپ کہتے ہیں۔ رجالٌ و نساءٌ سِمَاح و سُمَحَاءُ و مَسَامِیح: فیاض اور سخی مرد و عورتیں۔ سَمَحَ ـَ سَمَاحاً و سَمَاحَۃً بکذا: کی بخشش کرنا۔ — لہ بالشیء: کو کوئی چیز دینا، عطا کرنا۔ اَسْمَحَ الرجلُ: فیاض و سخی ہونا۔ السَمْحَۃ سَمْح کا مونث جمع سِمَاح: صرف۔ المُسْمَح: وسعت و فراخی۔ کہتے ہیں۔ ان فی الحق لَمَسْمَحاً: حق بات میں وسعت و فراخی ہے۔

۲۔ سَمَحَ ـَ سَمَاحاً و سَمَاحَۃً العودُ: لکڑی کا نرم ہونا۔ ت الناقۃُ: اونٹنی کا مطیع اور تیز رفتار ہونا۔ سَمَّحَ: نرم ہونا، نرمی کا برتاؤ کرنا۔ — الرُمْحَ: نیزہ کو نرم کرنا۔ — الرجلُ: نرم چال چلنا، تیز چلنا، بھاگنا۔ سَامَحَ ہُ فی الأمر و بالامر: سے نرم برتاؤ کرنا، کے مقصد میں، موافقت کرنا۔ ہُ بذنبہ: کا گناہ معاف کرنا، کے گناہ سے درگزر کرنا۔ کہتے ہیں۔ سامحك اللہ: اللہ (آپ کی غلطی) سے درگزر فرمائے۔ اُسْمَحَ ت الدابۃُ: جانور کا سرکشی کے بعد نرم ہونا۔ کہتے ہیں۔ اُسْمَحَتْ قُرونتُہُ: اس کے نفس نے ذلیل ہو کر اس کی اطاعت کرلی۔ تَسَمَّحَ و تَسَامَحَ فی کذا: میں نرمی برتنا۔ بَیع السَمَاح: وہ بیع جس میں قیمت گھٹانے میں نرمی کی جائے۔ کہتے ہیں۔ [illegible] معاملہ [illegible]

اندوزی ہے۔

۳۔ رقصُ السَمَاح: مشائخ کا وہ رقص جو وہ عبادت میں کرتے ہیں۔ السِمَاح: چمڑے کے خیمے۔

○ سَمَحَ ـَ سَماحاً (ل ب): کو فراخ دلی سے کچھ ادا کرنا۔ ل ب/ان: کو کسی چیز کی یا کچھ کرنے کی اجازت دینا۔ ل ب: کو کچھ کرنے کا اختیار دینا۔ لاسمح اللہ: اللہ نہ کرے۔ اِسْتَسْمَحَ ہُ: سے اجازت طلب کرنا، سے معافی یا درگزر کی درخواست کرنا۔ سماحتہ: صاحب امتیاز۔ سماحۃ المفتی: مفتی کا لقب۔ مسامحات: چھٹیاں۔ مسموح بہ: جائز، روا، قابل قبول، قابل تسلیم، قابل تقرر، اہل، جس کی اجازت دی گئی۔ متسامح: (مع کے ساتھ) بہت ہی شفیق، مہربان، کے ساتھ مزاج کو قابو میں رکھنے والا۔ صبر سے کام لینے والا، بردبار، متحمل۔

۴۔ السِمْحَاقُ (ع ا): سر کی ہڈی پر باریک جھلی۔ سَمَاحیق السماء: آسمان پر بادل کے ہلکے ٹکڑے۔ کہا جاتا ہے: علی ثرب الشاۃ سماحیق من الشحم: بکری کی اوجھ کی چادر پر چربی کی کچھ جھلی سی ہے۔

سمخ: ا۔ سَمَخَ ـُ سُمُخاً الزرعُ: کھیتی کا پھوٹنا۔ زرع حسنُ السِمْخَۃ: اچھی اگنے اور بڑھنے والی کھیتی۔

۲۔ سَمَخَ ـَ سَمْخاً ہُ: کان کے سوراخ پر چوٹ لگا کر زخمی کرنا۔ محاورہ ہے۔ سمخنی بحدّۃ صوتہ و کثرتہ: اس نے اپنی آواز کی تیزی سے اور بول بول کر میرے کان کھالئے۔ السِمَاخ: کان کا سوراخ۔

سمد: ا۔ سَمَدَ ـُ سُمُوداً: حیران کھڑا رہ جانا، مبہوت ہونا، گانا۔ سَمَّدَ الرجلُ: کو کھیل کود میں لگانا، بہلانا۔

۲۔ سَمَدَ ـُ سُمُوداً: تکبر سے سر اونچا کرنا اور سینہ تاننا۔ اسْمَدَّ اِء اسْمِدَاداً و اِسْمَادَّ اسْمِیداداً الرجلُ: غصہ سے پھول جانا۔ و — ت یدُہُ: ہاتھ کا سوجنا، متورم ہونا۔ وطْبٌ سَامِدٌ: دودھ کی بھری ہوئی اور اوپر اٹھی ہوئی مشک۔

۳۔ سَمَدَ ـُ سُمُوداً فی العمل: کام میں مشغول ہونا۔ — ت الابلُ: اونٹ کا تیز چلنا۔ — الرجلَ: کا قصد کرنا۔ سَمَّدَ الشعرَ: بالوں کو جڑ سے مونڈ دینا۔ اسْمَدَّ اِء اِسْمِدَاداً و اسْمَادَّ اسمِیداداً الشیءُ: چیز کا جاتا رہنا، گم ہو جانا۔ السَمْد: (مص) کہتے ہیں۔ ھولك سَمْداً: وہ ہمیشہ کے لئے تمہارا ہے۔

۴۔ سَمَدَ الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ السَماد (ز): کھاد۔

السَمِیدم سَمِیْدَہ (ط): دلی ہوئی گیہوں (عام بول

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چال میں)

۶۔ السَمَنْدَر و السَمَيْدَر (ح): پانی اور خشکی کا ایک جانور۔ کہتے ہیں وہ ایک ایسا مادہ خارج کرتا جس سے آگ بجھ جاتی ہے اس لئے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جلتا نہیں (یونانی لفظ)

۷۔ السَمَيْدَع جمع سَمادِع: فیاض سردار، شریف، بہادر (ح) بھیڑیا، تلوار۔

سمذ: السَمِيذ جسے السميد بھی کہا جاتا ہے (ط) سفید آٹا۔

سمر: ۱۔ سَمَرَ ۔ سَمْرًا و سُمُورًا: رات کو باتوں میں گزارنا اور نہ سونا۔ محاورہ: لا افعله ماسمر السمير او ابن سمير او ابنا اسمير: جب تک لوگ راتوں کو باتیں کرتے رہیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مراد کبھی بھی نہیں کروں گا۔ سَامَرَهُ کے ساتھ رات کو باتیں کرنا۔ تَسَامَرَ القومُ: لوگوں کا رات کو آپس میں باتیں کرنا۔ قومٌ سَمْرٌ: راتوں کو باتیں کرنے والے۔ السَمَر: رات کو باتیں کرنے والا۔ جمع أَسْمار: رات کی باتیں، رات، رات کی تاریکی۔ (کہتے ہیں۔ لا آتیه سَمَراً: یعنی میں رات کو اس کے پاس نہیں آؤں گا) چاند کا سایہ یعنی وہ چیز جو چاندنی آنے میں مانع ہو جیسے دیوار یا چھت وغیرہ اور کبھی عرب جہاں چاندنی نہ ہو اسے قَمَرٌ اور جہاں ہو تو اسے بطور مقابلہ سَمَرٌ کہتے ہیں۔ (لا أُكَلِّمُهُ السَمَرَ وَ القَمَرَ: یعنی جب تک چاند سایہ فگن ہے اور چمکتا رہے گا میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا اور یہاں مدت وجود السَمَرَ و القَمَرِ مراد ہوتی ہے)۔ زمانہ راتوں کو باتیں کرنے والوں کی مجلس۔ السَمَرة: رات کی گفتگو۔ السَامِر (فا) جمع سُمَّر و سُمَّار: راتوں کو باتیں کرنے والوں کی محفل۔ آپ کہتے ہیں۔ اَمْسَيْتُ البَارِحَةَ فِي سامِرِ الحيِّ: میں نے گزشتہ روز محلّہ کی راتوں کو باتیں کرنے والوں کی مجلس میں گزارا۔ ــ والسَامِرة: اسم جمع ہے باتیں کرنے والوں کے معنی میں۔ السَمِيْر: راتوں کو باتیں سنانے والا، زمانہ۔ کہتے ہیں۔ لا أفعلُهُ سميرَ اللَّيالي: میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ابنُ سَمِير: رات جس میں چاند نہ نکلا ہو۔ ابْنا سمِيْر: رات اور دن۔ السِمِّير: رات میں باتیں سنانے والا۔

۲۔ سَمِرَ ۔ وَ سَمُرَ ۔ سُمْرَةً و اسْمَرَّ اسْمِرَاراً و اسْمَارَّ اسميراراً: سیاہ و سفید کے درمیان رنگ والا، یعنی گندم گوں ہونا۔ اسْمَر م سَمْرَاء جمع سُمْر: گندم گوں۔ سَمَرَ ۔ سَمْرًا اللبنَ: دودھ میں پانی ملا کر پتلا کرنا۔ الخَمرَ: شراب پینا۔ سَمَّرَ الخمرَ: شراب پینا۔ اللبنَ: دودھ میں پانی ملا کر اسے پتلا کرنا۔ تسَمَّرَ: میخ سے مضبوط ہونا۔ الأسمرُ: ہرنی کا دودھ، نیزہ، کہتے ہیں: عامٌ اَسْمَرُ: بے بارش والا خشک سال۔ الأَسْمَرانِ: پانی اور گیہوں، پانی اور نیزہ۔ السَمَار: بہت پانی والا دودھ، السَامُور: ہیرا۔ السَمُّور جمع سَمَامِير (ح) نیولے کے مشابہ اور اس سے قدرے بڑا ایک جانور۔ اسکی کھال سے پوستین بنائے جاتے ہیں۔ اس کی کھال کو بھی سَمُّور کہتے ہیں۔ المَسْمُور (سَمَّر اللبنَ سے مشتق ہے) پانی ملے دودھ میں بھگوئی ہوئی روٹی۔

۳۔ سَمَرَ ۔ سَمْرًا العينَ: گرم سلائی سے آنکھ پھوڑنا۔ سَمْراً البابَ وغيرَهُ: دروازہ وغیرہ کو کیل سے مضبوط کرنا۔ سَمَّرَ البابَ وغيره: دروازہ وغیرہ کو کیل سے مضبوط کرنا۔ المِسْمَار جمع مَسَامِير: کیل، میخ، اونٹوں کا اچھار کھوالا۔ المَسْمُور: کم گوشت سخت پٹھوں والا۔

۴۔ سَمَرَ ۔ سَمْراً و سَمَّرتِ الماشية النباتَ: مویشی کا گھاس چرنا۔

۵۔ سَمَرَ ۔ سُمْراً و سَمَّرَ السهمَ: تیر چھوڑنا، چلانا۔ السمُوْر: تیز رفتار اچھی نسل کی اونٹنی۔

۶۔ السَمُرُ جمع أَسْمُر جس کا واحد سَمُرَة ہے (ن): ایک درخت جس کی لکڑی بہت عمدہ ہوتی ہے۔ السَمار (ن): ایک پودا لمبے تنے والا، سیدھا کھڑا رہتا ہے، اس کے پتے ٹوکریاں، چٹائیاں، چھابے، چنگیریں وغیرہ بنانے میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

۷۔ السُمْرُوت: لمبا، طویل۔

۸۔ السَمَرْمَر واحد سَمَرْمَرَة (ح): ٹڈی کا شکار کرنے والا ایک چھوٹا پرندہ، تلیر۔

○ سَمَّر حالی: کو سے کیلوں کے ذریعے جوڑنا۔ ــ المسمارَ: کیل گاڑنا، ٹھوکنا۔ سَامَرَه: کے ساتھ رات یا شام خوشگوار بات چیت، گپ شپ میں گزارنا، کیساتھ گفتگو، گپ شپ کرنا۔ تسمّر: میخ ٹھکنا، کیل سے جڑنا، اپنی جگہ کھڑا رہ جانا جیسے زمین نے پاؤں پکڑ لئے ہوں۔ سُمْرة: سانولا پن، بھورا، گندمی رنگ۔ سَمَار: سینٹھا کی ایک قسم، جو چٹائیاں وغیرہ بننے کے کام آتی ہے۔ سمار هندی صلب: بانس کی ایک قسم۔ سمير: رات کی گپ شپ کا ساتھی، رات کی گپ شپ میں شریک۔ عموماً کہانیوں، گیتوں، موسیقی اور تفریح کی محفلوں میں مہمان نواز۔ سمِيرة: سمیر کا مونث۔ سمراوات: گندم گوں عورتیں۔ مَسَامِر (جمع) شام یا رات کی تقریبات، جس میں بات چیت، گپ شپ، کھیلیں، نغمہ سرائیاں اور کہانیاں وغیرہ شامل ہوں۔ مِسمار جمع مسامير کیل، میخ، پن، کوکا، ریٹ، گٹا۔ الخط المسماری: خط میخی، خط پیکانی۔ سَوَامِر (جمع) تفریح کی شامیں، سماجی شامیں، شام اور رات کو سجائی جانے والی محفلیں۔ مُسَمَّرٌ: کیلوں سے جڑا ہوا۔ السامِرة: سامری کی جمع۔ سامری جمع سامريون و سَمَرة: سامری۔

سمرقند: ازبک سوویت یونین کا ایک شہر۔

سمس: سَمْسَرَ سَمْسَرَةً: دلالی کرنا۔ السِمْسَار جمع سَمَاسِرَة و سَمَاسِر و سماسير (ت): دلال، چیز کا مالک اور منتظم۔ سِمْسَارُ الارض: زمین کا ماہر۔ السَمْسَرَة: (مص)، دلالی، دلالی کا پیشہ اور اسکی اجرت۔

۲۔ السَمْسَق و السَمْسِق و السُمْسَق و السُمْسُق (ن): چنبیلی، مرزنجوش۔

ب سَمْسَرَ: دلالی کرنا۔ سَمْسَرة: دلالی۔ سِمسار جمع سَماسِرة سَماسِر و سماسير: دلال، ایجنٹ۔ سمسار الأسهم: دلال حصص Stock broker

سمسيرة: دلال، بچولا، رشتے کرانے والا۔ سِمْسِم: تل، کنجد، سم سم۔

سمط: ۱۔ سَمَطَ ۔ سُمُوطاً الرجُلُ: چپ و خاموش ہونا۔ سَمَّطَ و اسْمَطَ: چپ ہونا، خاموش ہونا۔

۲۔ سَمَطَ ۔ سَمْطًا السكّينَ: چھری تیز کرنا۔ ــ الجديَ: بکری کے بچے کے بال گرم پانی سے صاف کر کے اسے بھوننا۔ السُمْط: اونی کپڑا۔ نعلٌ سُمُطٌ و أَسْماط: اکہرے چمڑے کا جوتا۔ ناقةٌ سُمُطٌ و أَسْماط: بے داغ اونٹنی۔ سَراوِيلُ أَسْماطٌ: اکہرا پائجامہ۔ ماءٌ سَامِطٌ (فا): جوش دیا گیا پانی جو کسی چیز کے بال وغیرہ، صاف کر دے۔ نعلٌ سَمِيْط: اکہرے چمڑے کا جوتا۔ التسميط (طب): زیادہ چلنے سے رانوں کے اندر کی طرف جلن۔

۳۔ سَمَطَ ۔ سَمْطاً الشيءَ: کو لٹکانا۔ سَمَّط الشيءَ: کے ساتھ چمٹنا، لپٹنا، لگا رہنا، کو زین کے تسمہ سے لٹکانا۔ ــ الشاعرُ: شاعر کا، مُسَمَّط اشعار نظم کرنا۔ ــ قصيدة فلان: کسی کے اشعار میں ہر ہر شعر کے مصرعوں میں ایک مصرعہ اپنی جانب سے شامل کرنا۔ تَسَمَّطَ الشيءُ به: کے کا ساتھ لٹکنا۔ السِمْط جمع سُمُوط: موتی یا مہرہ پروئی ہوئی لڑی، زین کا تسمہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ (کہتے ہیں۔ عَلَّقَهٗ بِسُموطِ سرجه: اس نے اسے زین کے تسمہ سے لٹکایا۔ من العمامة : پگڑی کا شملہ، گلوبند (زیور)۔ ـــ من الثیاب : کپڑے کا وہ حصہ جو چادر کے نیچے سے نظر آئے۔ ـ من الرمل : ریت کی لکیر۔ السِماط جمع سُمُطٌ صف بستہ چیز، دسترخوان۔ سِماطُ الطریق : راستہ کے ہردو کنارے۔ القومِ :لوگوں کی صف، قطار کہتے ہیں۔ هم علی سِماطٍ واحدٍ : وہ ایک ہی نظام پر ہیں۔ السَمِیط : بال صاف کیا ہوا اور بھونا ہوا بکری کا بچہ۔ ـــ السُمَیط : اینٹوں کا روا۔ المُسَمَّط من الشِعر شعر جو عروضی اجزاء پر منقسم ہو اور قافیہ کی روی پر نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ حُکْمُكَ مُسَمَّطاً تمہارا حکم پورا کیا ہوا ہے۔ تم پر کوئی اعتراض نہیں اصل میں لك حُکْمُكَ مُسَمَّطاً ہے۔ اس کا نصب حال ہونے کی بنا پر ہے۔ کہتے ہیں۔ هو لك مُسَمَّطاً: وہ تمہارے لئے صحت بخش یا مزیدار ہے اور کہتے ہیں۔ خذ حُکْمَكَ مُسَمَّطاً: اپنے حکم کو آسان، بااختیار اور نافذ العمل بنا۔

۴۔ سَمَطَ ـ سُمُوطاً علی الیمین : قسم کھانا، حلف اٹھانا۔ کہتے ہیں۔ سمطتُ الرجلَ یمیناً علی حقی: میں نے فلاں سے اپنے حق پر قسم کھلائی، حلف لیا۔

۵۔ سَمَطَ ـ سُمُوطاً اللبنُ : دودھ کی مٹھاس میں فرق آ جانا۔ سَامِط: وہ دودھ جس کی مٹھاس میں فرق آ گیا ہو۔

۶۔ السَمُط (مص) فقیر آدمی۔ رجلٌ سِمْطٌ جمع سُمُوط : چست و چالاک شخص۔ السَمِیط : سبک حال آدمی، فقیر۔

۷۔ السَمَیْطَر : ایک آبی پرندہ جو ہمیشہ پتلے پانی میں ملتا ہے۔

○ سَمَطَ ـ سَمطاً ہ : کو گرم پانی سے دھونا، تیار کرنا (دودھ کو) جوش دینا، ابالنا۔ سِمطٌ جمع سُمُوط : (موتی کے ہار کی) لڑی۔ سِمَاط جمع سِماطات و سُمُط و اَسْمِطَة :دسترخوان، کھانا۔ مَسْمَط جمع مَسَامِط: وہ جگہ جہاں ذبح کئے ہوئے جانوروں کی کھالیں گرم پانی سے دھوئی جاتی ہیں اور ان کے بال اتارے جاتے ہیں۔ مِسْمَط :جمع مَسامِط :انگور کی بیلوں کی آڑ۔

سمع :ا۔ سَمِعَ ـ سَمْعًا و سِمْعًا و سَمَاعًا و سَمَاعَةً و سَمَاعِیَةً و مَسْمَعًا الصوتَ : آواز سننا۔ سَامِع جمع سُمَّاع و سَمَعَة و سَامِعون : سننے والا۔ سَمِعَ له اللّٰهُ : کی درخواست قبول کرنا۔ سَمِع منه وله : کو دینا، عطا کرنا۔ الیه: کی طرف کان لگانا۔ سَمَّعَهُ الصوتَ : کو (آواز) سنانا۔ بـه : کا عیب مشہور کرنا، رسوا کرنا، بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، کو گالی دینا، کو بے نقاب کرنا۔ بـكـذا : کسی کے متعلق کوئی چیز پھیلانا۔ بفلان فی الناس : کا لوگوں میں ذکر کرنا۔ أَسْمَعَهُ: کوسنانا، گالی دینا۔ تَسَمَّعَ واسَّمَّعَ الرجلَ والیه : کی طرف کان دھرنا۔ تَسَمَّعَ علیه : کی بات چوری چھپے سننے کا ارادہ کرنا۔ تَسَامَعَ بـه الناسُ: کے متعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے سننا۔ اسْتَمَعَ لَهٗ والیه : کی بات پر کان دھرنا۔ اِسْتَسْمَعَهُ: کو سننا۔ السَامِعَان : دونوں کان۔ السَامِعَة: کان السَمْع :(مص) جمع أَسْمَاع و أَسْمُع وجج أَسَامِع و أَسَامِیع: کان، سننے کی قوت، حس، سنی ہوئی بات، سنا ہوا ذکر۔ کہتے ہیں۔ هو مابین سَمْعِ الأرضِ وبصرها: وہ ایسی جگہ ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں یا ایسی تنہائی کی جگہ میں ہے جہاں کوئی اس کی بات سننے والا یا دیکھنے والا نہیں۔ القی نفسه بین سَمْعِ الارض و بصرها: اس نے آپ کو خطرہ میں ڈال دیا اور ایسی جگہ پہنچا دیا جس میں اس کا نہ تو پتہ چل سکے، جہاں نہ انسان کی آواز سنائی دیتی ہے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ نیز کہتے ہیں۔ سَمْعَكَ الیّ : میری بات سنو۔ یہ بھی کہتے ہیں۔ سَمْعَ أُذنی فلاناً یقول ذلك : میں نے اسے اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا۔ یہ بھی کہتے ہیں۔ سِمْعَ أُذنی و سَمْعَةَ أُذنی و سِمْعَةَ اذنی: میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اُم السمع : دماغ۔ السِمْع: اچھا ذکر، اچھی شہرت۔ رجل سِمْعٌ :وہ آدمی جس کی بات سنی جاتی ہے۔ هذا امرٌ ذو سِمْعٍ: یہ معاملہ سننے کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے بات سنتا ہے جو اسے اچھی نہیں لگتی تو کہتا ہے۔ سِمْعًا لابِلْغًا یا سَمْعًا لابَلْغًا: سن لے بتاتا نہیں۔ ـــ: جس کی مادہ سِمْعَة ہے۔ بجو سے بھیڑیے کا بچہ اسکی قوت سماع بہت تیز ہوتی ہے یہاں تک کہ ضرب المثل ہے۔ هو أَسْمَعُ من سِمْعٍ۔ السَمْعَة سَمِعَ :کا اسم مرة۔ کہتے ہیں۔ فَعَلَهُ رِناءً و سَمْعَةً: اس نے یہ اس لئے کیا کہ لوگ اسے دیکھیں اور اسے سنیں۔ اُذنٌ سَمْعَةٌ : سننے والا کان۔ السُمْعَة : شہرت، ذکر، سنی ہوئی بات کہتے ہیں۔ فَعَلَهُ رِناءً وسُمْعَةً: اس نے یہ کام لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔ اذن سَمِعَة: سننے والا کان۔ السَمَاع: (مص) ذکر شہرت گیت۔ وہ چیز جو عربوں سے سنی جائے اور استعمال کی جائے مگر اس پر قیاس نہ کیا جائے کہتے ہیں۔ هذا امرٌ ذو سَمَاع : یہ بات سننے کے لائق ہے اور کہتے ہیں۔ قالوا ذلك سَمَاعَ أُذنی: لوگوں نے یہ بات میرے سامنے کی۔ سَمَاعِ : سن کے معنی میں اسم فعل ہے۔ السَمَّاع : بہت سننے والا۔ فرمانبردار، مطیع، جاسوس۔ السَمَّاعَة :(جمع سَمَّاعات) اونچا سننے والوں کو سنانے والا آلہ۔ earphone ٹیلی فون کا آواز گیر Telephone receiver صدر بین stetho Scope: اُذنٌ سَمَّاعَةٌ : سننے والا کان۔ السَمَاعِیّ (مو): موسیقی کا ایک ٹکڑا، نظم۔ اُذنٌ سَمُوعٌ: سننے والا کان۔ السَمِیع جمع سُمَعاء :سننے والا۔ اسم مبالغہ بمعنی مُسمِع :اسماء حسنی میں سے ایک نام، سنی ہوئی بات۔ أَمُ السَمِیع : دماغ۔ اُذنٌ سمیعٌ و سَمِیعةٌ : سننے والا کان۔ التَسْمِعَة کہتے ہیں: فعلته تَسْمِعَتَكَ او تَسْمِعَةً لك : میں نے یہ کام تمہیں سنانے کے لئے کیا۔ المَسْمَع : سننے کی جگہ کہتے ہیں۔ هو منی بمَرأی ومَسْمَعٍ :وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں اور اسکی باتیں سن بھی سکتا ہوں۔ المِسْمَع والمِسْمَعَة جمع مَسَامِع :کان المُسْمِعَة: مُغنّیه، گانے والی کہتے ہیں۔ غَنَّتْهُمْ مُسْمِعَةٌ : مغنیہ نے انہیں گانا سنایا۔

۲۔ المُسْمِع (فا) :قید المُسَمَّع (مفع): مقیّد۔

۳۔ السَمْعَمَع :شیطان، خبیث۔

۴۔ السَمْعَنَة والسِمْعَنَه : بہت سننے والی۔

○ سَمِعَ ـ سَمْعًا و سَمَاعًا و سَمَاعَةً و مَسْمَعاً ہ / ہ: کو سننا۔ ب: کے بارے میں سننا۔ ہ من :سے (کچھ) سننا۔ ہ مـن : (کے متعلق) جاننا، بتایا جانا (کی طرف سے) ــ الی /لِ: (کچھ) بغور سننا، پر توجہ کرنا۔ مـن :(کو) بغور سننا، پر توجہ کرنا۔ ب: کے متعلق افواہ سننا، کو چھپ کر سننا۔ ــ ل / الیِ : پر کان دھرنا۔ لم یُسمَع به : ان سنا، ان دیکھا۔ اَسْمَع ہ ہ: کو کچھ سنانا یا سننے دینا، کو کچھ سننے کے لئے دینا، کو کچھ یا اس کے بارے میں جاننے دینا، کو کسی چیز کے بارے میں بتانا۔ تَسَمَّعَ ل/ اِلی: (کسی شخص یا چیز) پر کان لگانا، دھرنا، کو غور سے سننا۔ تَسَمَّع : چھپ کر سن گن لینا، کن سوئیاں لینا۔ تَسَامَع بـه الناسُ :لوگوں نے اس کے متعلق ایک دوسرے سے سنا، اس کے بارے میں بات پھیل گئی، وہ لوگوں میں مشہور ہوگیا۔ اِسْتَمَعَ ہ : کچھ سننا، چھپ کر سننا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اتفاق سے سن لینا۔ ـــ لِ / الی / ہ / ہ: کو غور سے سننا، (کی) بات پر کان دھرنا، چھپ کر سن گن لینا، کن سوئیاں لینا۔ ـــ علی: کسی شخص کی چھاتی سے نکلنے والی آوازوں کو سن کر اس کے مرض کی تشخیص کرنا۔ شاھد السمع: گواہ (سنی سنائی بات کا) earwitness السمعُ و الطاعةُ و سمعاً و طاعةً: میں نے سن لیا اور مطیع ہوا۔ آپ کے تصرف پر، بہت خوب۔ تحتَ سمعِہِم: ان کے سنتے ہوئے۔ استرق السمع: چھپ کر سن گن لینا، کن سوئیاں لینا، مانیٹر کرنا۔ القی بسمعه الی: کی بات غور سے سننا۔ مَدَّسمعَهُ: کان کھڑے کرنا۔ سَمْعِيٌ: سمعی، سننے والا، آواز کا، سماعی، روایتی۔ علم السمعیات: علم آواز acousties سُمْعَة: شہرت (عموماً اچھی) نیک نامی آبرو وقعت عزت، بڑی یا مسلمہ حیثیت، نام۔ حمید (حسن) السُمْعِة: معزز، محترم۔ ردئ (سَيِّء) السُمْعِة: بدنام، بے وقار، بے عزت، مشتبہ چال چلن کا۔ سماع: آواز کا امتحان (Audition) سماعیات: علم آواز۔ سمّاعة: دروازے کا کھٹکا۔ مِسْمَع جمع مَسَامِع: کان، سٹیتھوسکوپ (ٹیلی فون) ریسیور۔ مَسْمُوع: اتنا بلند کہ سنا جا سکے گوش رس قابل ادراک۔ مسموع الکلمة: جس کی کہی ہوئی بات وزن رکھتی ہو اور اس پر توجہ دی جاتی ہو۔ المستمعون: سامعین، حاضرین۔

سمغ: ا۔ اسْمَغَدَّ اسْمِغْدَادًا الجرحُ: زخم کا سوجنا، متورم ہونا۔ اسْمَغَدَّ: بھی اسی معنی میں لیا جاتا ہے۔ المُسْمَغِدّ (فا): پھولا ہوا، بہت زور سے پکڑنے والا (جس کی وجہ سے اسکی انگلیاں پھول جائیں)

سمق: ا۔ سَمَقَ ۔سُمْقاً و سُمُوقًا النبتُ: پودہ کا بڑھنا، لمبا ہونا۔ صفت سَامِق و سَمِق السَمِقَ من الرجال: لمبا آدمی۔ السُماق: خالص کہتے ہیں۔ احبك حُبًا سُماقًا: میں تجھ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ السُمَّاق (ن): ایک درخت جس کے بیج گرم مسالہ کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں، ور پتے رنگنے کے کام آتے ہیں۔ السَمِیق: بیل جوتنے کا جوا۔

۲۔ اسمَقَرَّ اسْمِقْرَارًا الیومُ: دن کا سخت گرم ہونا۔

سمك: ا۔ سَمَكَ ۔سُمْكًا الشيءَ: کو بلند کرنا کہتے ہیں۔ سمك اللّٰہُ السماءَ: اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان بلند کیا۔ ـــ سَمْكًا و سُمُوكًا و سَمُكَ ۔ سَمَاكَةً: بلند ہونا۔ تسمَّكَ: بلند ہونا، اونچا ہونا۔ السَمْك: (مص) چھت، چھت گیری، ہر اونچی اور موٹی کا قد کاٹھ۔ السِماك جمع سُمُك: چیز کے اٹھانے کا اوزار۔ من الزَوْر: ہنسلی سے ملی ہوئی پسلی۔ السماکان: دو ستارے، ایک کو سماك رامح: اور دوسرے کو سماك أعْزَل کہتے ہیں۔ السمیك: لمبا السمیکات: چھاتی کے بالائی حصہ کے اردگرد گوشت کے اعضاء۔ (عام بول چال)۔ المِسْمَاك: خیمہ وغیرہ اٹھانے کی لکڑی۔ مِسْماك الکرم: انگور کی بیلیں اٹھانے کی لکڑی۔ المَسْمُوك: لمبا۔ ـ من الخیل: مضبوط گھوڑا۔ المُسْمَکات و المَسْمُوکات: آسمان (جمع)

۲۔ سَمَّكَ الشيءَ: چیز کو موٹا و دبیز کرنا۔ استَسْمَكَ الثیابَ: کپڑوں میں سے موٹا کپڑا اختیار کرنا۔ السَمِیك من الثیاب و غیرها: موٹا دبیز کپڑا وغیرہ۔

۳۔ استَسْمَكَ: مچھلی کھانا۔ السَمَك جمع سِمَاك و سُمُوك و أسماك واحد سَمَكَة: (ح) مچھلی۔ سمك الکَرَاکِيّ (ح): مچھلی جو ہر قسم کی مچھلیاں کھا لیتی ہے۔ سمك موسیٰ (ح): اس مچھلی کا گوشت لذت دار ہوتا ہے۔ السَمَّاك: مچھلی فروش۔

۴۔ السُمِیکاء (ح) دیمک لکڑی کھانے والا کیڑا۔

سمل: ا۔ سَمَلَ ۔سَمْلاً الحوضَ: حوض کو باقی ماندہ تھوڑے سے پانی سے صاف کرنا، یعنی یہ پانی نکال کر۔ ـــ الدَلْوُ: ڈول کا تھوڑا پانی نکالا جانا۔ سَمَّلَ الحوضُ: حوض سے تھوڑا پانی نکالا جانا۔ ـ الحوضَ: حوض سے تھوڑا پانی نکال کر اسے صاف کرنا۔ تَسَمَّلَ: پانی تھوڑا پینا۔ النبیذَ: نبیذ بار بار پینا۔ السَمِل: حوض میں بچا ہوا پانی۔ السَمَالُ: جوہڑوں کا کیڑا۔ السُمْلَة و السَمَلَة جمع سَمَل و أسْمال وسِمال و سُمُول: تھوڑا پانی۔ السُملان من الماء والنبیذ: پانی یا نبیذ کا بچا کچھا۔ السوَمَلَة: چھوٹی پیالی۔

۲۔ سَمَلَ ۔سَمْلاً عینَه: آنکھ پھوڑنا۔ اِسْتَمَلَ عینَه: آنکھ پھوڑنا السَمَّال: آنکھیں پھوڑنے والا۔

۳۔ سَمَلَ ۔سُمُولاً و سُمُولَةً و سَمُلَ ۔سَمَالَةً الثوبُ: کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ سَمِلْ: پرانا، بوسیدہ کپڑا۔ سَمَّلَ فلاناً بالقول: سے نرمی سے بات کرنا۔ أسْمَلَ الثوبُ: کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ السَمِل جمع أسمال: پورانا بوسیدہ کپڑا۔ ثوبٌ سَمَلَةٌ و سَمُولٌ و سَمِیلٌ: پرانا اور بوسیدہ کپڑا۔ السَوْمَل: پرانا اور بوسیدہ کپڑا۔

۴۔ سَمَلَ ۔سَمْلاً بینهم: کے درمیان صلح کرانا۔ أسْمَلَ بینهم: کے درمیان صلح کرانا۔

۵۔ السَمَوَّل: نرم مٹی کی زمین، فراخ زمین۔

۶۔ سَمْلَجَ اللبَنَ فی حلقه: دودھ کو آسانی سے پینا۔ السَمَلَّج و السُمَالِج: میٹھا دودھ۔

۷۔ السَمَلَع: (ح) بھیڑیا، خبیث۔ رجلٌ سَمَلَّعٌ: خبیث آدمی۔

۸۔ السَمْلَق: ہموار بنجر زمین۔

○ سَمَلَ ۔سُمُولاً و سُمُولَةً: (لباس) کا پھٹا پرانا ہونا، چیتھڑوں میں ہونا۔ شرب الکاس حتی السَمَلَ: پیالہ تلچھٹ تک پی جانا۔

سمن: ا۔ سَمِنَ ۔سِمَنًا و سَمَانَةً: موٹا اور فربہ ہونا صفت سَامِن و سمین جمع سِمان۔ سَمَنَ ۔سَمْنًا الطعامَ: کھانے میں گھی ڈالنا۔ سَمَّنَ الطعامَ: کھانے میں گھی ڈالنا۔ ہ: کو موٹا کرنا۔ اس سے ضرب المثل ہے۔ سَمِّن کلبك یأکُلْك: اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو وہ تمہیں کھا لے گا۔ القومَ: کو گھی کا توشہ دینا۔ ـ لہ: کو بہت بخشش دینا۔ أسْمَنَ: موٹا اور فربہ ہونا، بہت گھی والا ہونا، موٹے جانوروں والا ہونا، موٹا جانور خریدنا، موٹے جانور کا مالک ہونا اور اس کو ہبہ کرنا۔ الفرسَ: گھوڑے کو موٹا اور فربہ کرنا۔ ـ الخبزَ: روٹی کو گھی میں تر کرنا۔ الرجُلَ: کو گھی کھلانا۔ تَسَمَّنَ: موٹا ہونا۔ استَسْمَنَ: گھی مانگنا۔ ہ: کو موٹا پانا یا سمجھنا۔ اس سے ضرب المثل ہے۔ استَسْمَنْتَ ذا وَرَمٍ: تم نے سوجے کو موٹا سمجھ لیا، یعنی ظاہری حالت سے دھوکا کھا گئے۔ السامِن (فا): بہت گھی والا (باب تامر ولابن سے ہے) السَمْن: (مص) جمع أسْمُن وسُمُون و سُمْنَان: گھی السَمْنَة: گھی۔ السُمْنَة: موٹا کرنے کی دوا۔ السَمّان: گھی فروش۔ السَمِینُ: موٹا، فربہ۔ من الکلام: پاکیزہ گفتگو۔ السَمِینَة جمع سِمَان: سمین کا مونث۔ ارضٌ سمینةٌ: وہ زمین جس میں پتھر نہ ہو، صرف مٹی ہی مٹی ہو۔ المُسْمَن: خلقی طور پر موٹا۔ طَعامٌ مَسْمَنَةٌ: موٹا اور فربہ کرنے والا کھانا۔

۲۔ تَسَمَّنَ: شرافت و بھلائی کا دعویٰ کرنا جو اس میں نہ پائی جائے۔

۳۔ السُمْنَة جمع سُمَّان و سُمْنَان: (ح) ایک پرندہ جس کے لذیذ گوشت کی وجہ سے اسے شکار کیا جاتا ہے۔ عوام اسے سُمُّنَة کہتے ہیں۔ اس کی جمع سُمُّن اور سَمامِن آتی ہے۔ السُمَانَی جمع سُمَانیات: واحد سُمَاناة (ح) بٹیر۔

۴۔ السَمَنْجُونِي: آسمانی رنگ کا (فارسی لفظ ہے)۔

۵۔ السَمَنْد و السَمَنْدَل و السَنْدَل: (ح) ایک پرندہ جو ہندوستان میں بکثرت پایا جاتا ہے۔

۶۔ السَمَنْدَر: ایک جانور جو آگ بجھانے والا مادہ خارج

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرتا ہے اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آگ میں نہیں جلتا (یونانی لفظ)

ن سَمِنَ ـ سِمَنًا و سمانةً : موٹا، فربہ، لحیم شحیم، گٹھا، جسیم، گول مٹول ہونا یا بن جانا۔ سَمَّنَ و أَسْمَنَ ہُ : کو موٹا، فربہ، گول مٹول کرنا۔ سِمَن : موٹاپن، فربہی، جسیم، لحیم شحیم، گٹھا یا گول مٹول ہونا۔ سِمْنَة : مندرجہ بالا معانی۔ سَمَانَةُ الرجل : پنڈلی۔ مُسْمِن : موٹا، فربہ۔

سمہ: ا۔ سَمَهَ ـ سُمُوهًا : حیران ہونا۔ ـ الفرسُ : گھوڑے کا دوڑنے میں تھکان کو نہ جاننا۔ سَمَّهَ الابلَ : اونٹوں کو بیکار چھوڑ دینا صفت مفعولی۔ سُمَّهٌ ـ السامِه ج سُمَّهٌ : حیران السُّمَّهی : کرہ ہوائی، جالا جو آنکھوں کو روشنی میں دھاگوں کی طرح نظر آتا ہے۔ والسُّمَّهُ والسُّمَّيْهَى والسُّمَيْهَى والسُّمَّيْهاء والسُّمَيْهاء : ڈھکوسلے۔ رجل مُسَمَّهُ العقلِ : وہ آدمی جس کی عقل جاتی رہی ہو۔

۲۔ سَمْهَجَ کلامَهُ : بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا۔ ـ الحبلَ : رسی کو مضبوط بٹنا۔ ـ الشیءَ : چیز کو بھینچنا۔ ـ الدراهمَ : کو رواج دینا۔ ـ الیمینَ : سخت قسم کھانا۔ السِمْهاج : جھوٹ۔

۳۔ اِسْمَهَدَّ السنامُ : کوہان کا موٹا یا بڑا ہونا۔ السُمْهُد : خشک سخت چیز۔ والسَمَهْدَد : موٹا، جسیم اونٹ، بڑے جسم کا اونٹ۔

۴۔ اِسْمَهَرَّ : سخت و مضبوط ہونا، نیزہ کی طرح سیدھا ہونا۔ الظلامُ : بہت اندھیرا، تاریکی کا تہہ بہ تہہ ہونا۔ السَمْهَری : سخت نیزہ۔ رمحٌ سَمْهَرِيٌّ و رِماح سَمْهَرِيَّةٌ : سخت نیزہ سخت نیزے۔ قدٌّ سَمْهَرِيٌّ : معتدل قد۔

ن سَمْهَری : لمبا اور بڑا کتا، بہت ہی لمبا، بڑے قد و قامت والا۔ سمهری القامة : یہی معنی۔

سما: ا۔ سَمَا ـ سُمُوًّا : بلند ہونا اونچا ہونا کہتے ہیں۔ نفسه تسمو الی معالی الأمور : اس کا نفس بلند امور کی طرف مائل ہے۔ ـ البصرُ : نظر (کا) اٹھنا کہتے ہیں۔ سمت الیه بصری و سما الیه بصری : میری نگاہ اس کی طرف اٹھی۔ ـ به : کو بلند کرنا۔ سمّی الشیءَ : چیز کو بلند کرنا۔ ـ ذ من بلد الی بلد : کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا، پہنچانا۔ سامَی مُساماةً الرجلَ : کسی سے فخر میں مقابلہ کرنا۔ فلانٌ لا یُسامٰی : فلاں سے فخر میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تسمّی الی ابی فلان او بالقوم : سے منسوب ہونا۔ تَسامَی تَسامیا القوم : ایک دوسرے کے مقابل فخر کرنا۔ علی الخیل : گھوڑوں پر سوار ہونا۔ اِسْتَمَی اِسْتِماءً ہُ : سے ملتے جانا، کسی میں خیر و بھلائی معلوم کرنا۔ السامِی جمع سامُون و سُماة م سامِیَة جمع سامیات و سَوَامٍ (فا) : بلند و اونچا، شان، شوکت والا کہتے ہیں۔ رددتُ من سامی طرفه : میں نے اسے اس کا نفس گھٹا کر دکھایا۔ السَّمَا : اچھی شہرت۔ شاع سُماهُ : اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ السَّمَا جمع سَمَاوَات و سَمٰوَات : (لکھنے میں الف حذف کر کے، نہ کہ بولنے میں) و سُمِیّ و سَمَیّ و أَسْمِیَة : آسمان، زمین کو گھیرنے والی وسیع فضا۔ ہر وہ چیز جو سر کے اوپر ہو، گھر کا چھجا، ہر چیز کی چھت، گھوڑے کی پیٹھ، بارش، بادل، گھاس، نیک روحوں کا مسکن۔ سماءَ السماوات (فلك) : فلک اعظم، بلند ترین آسمان۔ سماء الروية (فلك) : فلک بروج۔ السماوة : گھر کا چھجا۔ السَمِیّ : بمعنی سامی۔

۲۔ سَمَا ـ سُمُوًّا الرجلَ زیدًا و بزید : کا نام زید رکھنا۔ سَمَّی الرجلَ زیدًا و بزید : کا نام زید رکھنا۔ الشارعُ فی العمل : کام کے شروع میں اللہ کا نام لینا۔ سَمَّیتُ لهم الرجلَ : میں نے انہیں آدمی کا نام بتایا۔ أَسْمَی الرجلَ زیدًا و بزید : کا نام زید رکھنا۔ تَسَمَّی : نام پانا۔ تَسامَی تَسامِیًا القومُ : ایک دوسرے کو نام لے کر پکارنا۔ اِسْتَسْمَی استسماءً الرجلَ : کا نام دریافت کرنا۔ سَمَاوَةُ کل شیء : ہر چیز کا بُعد یا ڈھانچہ۔ الاسْم والأُسْم جمع أَسْماء و أَسامٍ و أَسامِیّ و أُسْماوات : نام۔ اسم کا ہمزہ وصلی بسملہ میں کتابت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ نصاریٰ کے ہاں بسملہ : بسم الآب والابن والروح القدس : ہے جبکہ مسلمانوں کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اسمُ الجلالة : باری تعالیٰ کا نام۔ السُمُ والسِم والسُم : بمعنی اسم کہتے ہیں۔ هذا سُمُهُ : یہ اس کا نام ہے (یعنی هذا اسمه کے معنی ہیں)

ن اسم الاشارة : اسم اشارہ اسم التصغیر : اسم مصغر۔ سُعُور اسماً : برائے نام اسمیٌّ : نام کا، محض نام کا۔ اسم التالیف و اسم الکتابة : قلمی نام، پین نیم اِسمٌ تجاریٌّ : فرم کا نام۔ اسم عَلَم : اسم معرف، اسم الجمع : اسم جمع، اسم الجنس الجمعی : اسم جنس، جیسے حَمَام : کبوتر جنس کبوتر۔ اسم المعنی : خیالی، ذہنی، مجرد نام۔ اسم العین : اسم محسوس، کسی مادی، شے کا نام۔ اسم التفضیل : اسم تفضیل، اسم الفعل : مصدری اسم (Gerund) اسم الفاعل، فاعل کا نام۔ اسم المفعول : مفعول کا نام۔ اسم المرة : اسم مرة، باسم فلان کے نام پر، کی خاطر، کی طرف سے۔ بسم اللّٰه : اللہ کے نام سے۔ تُقَدَّمُ الطلبات باسم رئیس الجمعیة : درخواستیں سوسائٹی کے صدر کے نام بھیجی جائیں گی۔ جملةٌ اسمية : وہ جملہ جس میں اسم پہلے مذکور ہو قیمةٌ اسميّةٌ : برائے نام قیمت، لکھی ہوئی قیمت۔ السُمومُ البیضاء : سفید نشیات جیسے کوکین، ہیروین وغیرہ۔ سَمُوم (م) جمع سمائم : گرم ہوا، لو، گرم ریت کا طوفان۔ مسموم : زہریلا۔

۲۔ مُسِمّ : زہریلا۔ الاسمِيَّة : فلاسفہ کا مدرسہ فکر کہ اجناس و انواع کی ذاتی طور پر کوئی حقیقت یا وجود نہیں۔ (nominalism) سَمِیُّكَ : وہ شخص جس کا نام بھی وہی ہو جو تمہارا ہے، تمہارا ہم نام، تمہارا نظیر۔ سَمِیّ : ہم نام، نظیر۔ المُسَمَّوِیّ : نام کا، نام سے نسبت۔ المُسَمَّی (مق) : نام رکھا ہوا، معلوم و معین کہتے ہیں۔ هو من مُسمَّی قومه و من مُسمَّاتهم : وہ اپنی قوم کا ایک چیدہ شخص ہے۔

۳۔ سما ـ سُمُوًّا القومُ : لوگوں کا شکار کے لئے جانا۔ اِسْتَمی اِسْتِماءً الصائدُ : شکار کا شکاری جرابیں پہننا، شکار کرنا۔ السامِی جمع سُماة : شکاری جس نے شکاری جرابیں پہن رکھی ہوں۔ المِسماة : شکاری کی اونی جرابیں۔

سن: ا۔ سَنَّ ـ سَنًّا السِکِّینَ : چھری تیز کرنا، چھری کی دھار تیز کرنا کہتے ہیں۔ هذا مایسنّك علی الطعام : یہ چیز تم میں کھانے کی اشتہار پیدا کرے گی، بھوک لگائے گی۔ الحمضُ یَسُنّ الابل علی الخُلّة : نمکین و تلخ پودا اونٹوں کو تقویت دیتا ہے جیسے دندانہ چھری کی دھار کو تیز کرتا ہے۔ ـ الرمحَ : نیزہ میں پھل لگانا۔ ـ الرجلَ : کو نیزہ مارنا۔ ـ الطینَ : مٹی سے برتن بنانا۔ ـ الشیءَ : چیز کی تصویر بنانا۔ الامیرُ رعیتَه : امیر کا اچھی طرح اپنی رعیت کا انتظام کرنا۔ سُنَّ ت الارضُ : زمین کی سبزی کا چر لیا جانا۔ سَنَّنَ السکّینَ : چھری کو تیز کرنا اور صیقل کرنا۔ ـ الرمحَ : نیزہ میں پھل لگانا۔ الرمحَ الیه : کی طرف نیزہ سیدھا کرنا۔ القولَ : بات کو سجانا سنوارنا۔ أَسَنَّ الرمحَ : نیزہ کو پھل لگانا۔ السِنّ جمع أسنان و أَسِنَّة و أُسُنّ : قلم میں تراشنے کی جگہ۔ گھاس اسی سے ہے۔ اعطوا السنَّ حظها من السِنّ : دانتوں والے جانوروں کو گھاس میں سے ان کا حصہ دو۔ السِنَّة : دو

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

طرفی کلہاڑی۔ السُّنَّۃ جمع سُنَن: چہرہ یا اسکی گولائی۔
السِنَان (ج) اَسِنَّۃ: نیزہ کا پھل۔ چاقو چھری وغیرہ تیز کرنے کی سان کہتے ہیں۔ سَنَّ سِکِّینَہ بالسِنَان: (اس نے سان پر اپنی چھری تیز کی)۔ السَنِین م سَنِینَۃ: سان پر سے گرا ہوا برادہ، سان پر تیز کیا ہوا (چاقو چھری وغیرہ) وہ زمین جس کی گھاس چرلی گئی ہو۔ جمع سَنَائِن: لمبا اونچا ریت کا ٹیلہ۔ المِسَنّ: سان۔ مَرمَرٌ مَسنُونٌ: نرم صیقل کیا ہوا مرمر۔ رجل مسنون الوجہ: کتابی چمکیلے چہرے والا، لمبے چہرے اور اونچی ناک والا۔

۲۔ سَنَّ ۔ُ سَنًّا الابلَ: اونٹ کو تیز ہانکنا۔ ـــ الطریقَۃَ: طریقہ اختیار کرنا، راستہ پر چلنا۔ ـــ علیھم السُّنَّۃَ: کے لئے طریقہ مقرر کرنا کہتے ہیں۔ سنَّ فلانٌ طریقاً من الخیر: فلاں نے نیکی کے ایک ایسے معاملہ کا آغاز کیا جسے اس کی قوم نہیں جانتی تھی۔ تَسَنَّنَ بسُنَّتِہ: کے طریقہ پر عمل کرنا۔ فی عدوہ: اپنی راہ لینا۔ اِستَنَّ الطریقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ استن بسُنتہ: کے طریقے پر عمل کرنا۔ استن بسیرۃ فلان: فلاں کی سیرت کی پیروی کرنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا آگے پیچھے دوڑنا۔ کہتے ہیں۔ استن بہ الھوی حیث اراد: اس کو اسکی خواہش ہر طرف لے گئی۔ استَسَنَّ الطریقۃَ: طریقہ اختیار کرنا، راستہ پر چلنا۔ ـــ الطریقُ: راستہ کا آمد و رفت والا ہونا۔ ـــ بالشیء: کے پیچھے چلنا۔ السَنَن: طریقہ۔ استقام فلانٌ علی سنن واحد: فلاں ایک ہی طریقہ پر جما رہا۔ نیز کہتے ہیں۔ امض علی سَنَنِكَ: تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، اپنی راہ لو۔ مرّ السھم فی سننہ: تیر اپنے راستہ پر گیا، ادھر ادھر نہیں ہوا۔ ـــ والسِنَن و السُنَن والسُنُن من الطریق: کشادہ راستہ، راستہ کا رخ، بڑا راستہ، بڑی سڑک۔ السُّنَّۃ جمع سُنَن: سیرت، طریقہ، طبیعت، شریعت۔ اھل السُنۃ: وہ لوگ جو خلافت حضرت ابوبکرؓ (وعمرؓ وعثمانؓ) کے قائل ہیں جبکہ اہل الشیعۃ یا متاولہ کا عقیدہ ہے کہ خلافت کے حقدار حضرت علیؓ تھے۔ السُنَّۃ التَصوِیرِیَّۃ (ف ج): فن تصویر میں ایک متوارث مکتب فکر۔ السُنۃ: سن کا اسم مرۃ۔ السُنِّیَّۃ: (واحد سُنّی) مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ۔ سنت کی جانب منسوب۔ مشہور ہے کہ وہ شیعیۃ کا مخالف ہے۔ السَنِینَۃ جمع سَنَائِن: ایک ہی رخ پر چلنے والی ہوا۔ مُستَنُّ الطریقِ: واضح راستہ۔ طریق مُستَسَنّ و مُستَسَنٌ: آمد و رفت والی سڑک۔

۳۔ سَنَّ ۔ُ سَنًّا الاسنانَ: دانتوں میں مسواک کرنا۔ الرجلَ: کو دانتوں سے کاٹنا کے دانت توڑنا۔ سَنَّنَ الأسنانَ: دانتوں میں مسواک کرنا۔ اسنَّ الصبی: بچے کے دانت نکلنا۔ ـــ الرجلُ: آدمی کا بوڑھا ہونا۔ اللّٰہ سِنَّہٗ: اللہ تعالیٰ کا کسی کے دانت اگانا۔ استَنَّ الرجلُ: خلال کرکے دانتوں کو صاف کرنا۔ استَسَنَّ: عمر رسیدہ ہونا۔ السِنّ جمع اَسنان و اَسِنَّۃ و اَسُنّ: دانت (مونث) درانتی یا کنگھی وغیرہ کا دندانہ، لہسن کے سر پر کا دانہ، پیٹھ کے منکوں کا کنارہ۔ جمع اَسنان: عمر (مونث) کہتے ہیں۔ طعن و طُعِنَ فی سِنِّہ: بوڑھا ہونا، بہت بوڑھا ہونا کہتے ہیں۔ ھو حدیث السن: وہ نوعمر ہے۔ ھو کبیر السِن: وہ بڑی عمر کا ہے۔ کَبُرت سِنُّہ: اس کی عمر زیادہ ہوگئی۔ ھو سِنُّ فلان: وہ فلاں کا ہم عمر ہے۔ ولہ ابنٌ سِنُّ ابنِكَ و اولادٌ اسنانُ بَنِیكَ: اس کا بیٹا تمہارے بیٹے کا ہم عمر ہے اس کے بچے تمہارے بچوں کے ہم عمر ہیں۔ سِنۃ من الثوم: لہسن کی تری۔ السَنُون: منجن۔ سَنِین المرء م سنینۃ: جو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہو۔ المُسِنّ من الدواب جمع مسانّ: بوڑھا جانور۔

۴۔ سَنَّ ۔ُ سَنًّا العقدۃَ: گرہ کھولنا۔ الامرَ: معاملہ بیان کرنا۔ آسان کرنا۔ جاری کرنا۔

۵۔ سَنَّ ۔ُ سَنًّا الماءَ والترابَ: آہستہ آہستہ پانی یا مٹی گرانا، ڈالنا۔ ـــ ت العینُ الدمعَ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اَسَنَّ الماءَ: پانی گرانا، بہانا۔ اِستَنَّ الماءُ: پانی کا گرنا۔ استَسَنَّ تِ العینُ: آنکھ کے آنسو بہنا۔ حَمَاٌ مَسنُونٌ: بدبودار کیچڑ۔

۶۔ سَنَّ ۔ُ سَنًّا الرجلَ: کی بہت تعریف کرنا۔

۷۔ استَنَّ السرابُ: سراب کا چمکنا۔ استَسَنَّ بسیفہ: تلوار کو حرکت دینا۔

۸۔ السَنّۃ: (ح) ریچھ کی مادہ، چیتے کی مادہ (ریچھنی، چیتنی)

۹۔ سَنسَنَ ت الریحُ: ٹھنڈی ہوا چلنا۔ السِنسِن (ج) سَنَاسِن: پیاس (غ ا) سینہ کی ہڈیوں کا سرا۔ پیٹھ کے منکوں کا کنارہ کہتے ہیں۔ جاء ت الریحُ سَنَاسِنَ: ہوا ایک ہی طرح آئی۔ السِنسِنۃ (ع ا): پیٹھ کے منکوں کا کنارہ۔

سنب: ۱۔ السَنَاب: سخت برائی۔ السِنَاب والسِنَابۃ: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ السَنِب: بہت دوڑنے والا۔ السَنب والسَنبۃ والسَنبَۃ: زمانہ کا ایک حصہ۔ السنوب والسَناب والسِناب والسَنبُوب: غضبناک، بہت شریر، چغلخور، جھوٹا۔ السُنوِبیّ: جدت پرستانہ۔ السُنوبیّۃ: جدت پرستی۔

○ سَنَّ قانوناً: قانون وضع کرنا، منظور کرنا۔ استَنَّ سنۃ محمد: نبی کریم ﷺ کی سنت کی اتباع کرنا۔ سِن (م) جمع اَسنان واَسِنّۃ واَسُن: دندانہ (کنگھی، آری وغیرہ کا بھی) (چٹان وغیرہ کی) نوک، کانٹا، شاخ، (ہاتھی کا) دانت (سانپ کا زہر والا) دانت، ناب، نوک، نب (قلم کا) عمر (کسی شخص کی) سِنُّ الرُشد: بلوغت۔ سِنّ الفیل: ہاتھی دانت، عاج۔ تقدمت بہ السن: عمر زیادہ ہو جانا، عمر رسیدہ ہونا۔ سَنَن: رواج، دستور، عادت، قاعدہ۔ اَسَنّ: زیادہ عمر کا۔ مِسَنّ جمع مسانات و مَسَان: سان۔ سنگ فسان۔ Whet-stone grindstone، استرا لگانے کا پٹہ یا چمڑا razor strop۔ مسنون: سنت کا مقرر کردہ، قانون یا رواج کا منظور کردہ، تیز کیا ہوا، گاؤدم بنایا ہوا، نوکدار، نوکیلا، متعفن، بدبو دار، سڑاندوالا، (دلدل) مُسَنَّن: دانتے دار، دندانے پڑے ہوئے نوکیلے کونوں والا، نوکیلا، تیز، تیکھے نقوش والی (شکل)۔

۲۔ السُنباذَج: سان کا پتھر (فارسی لفظ)

۳۔ السَنبُوسَق و السَنبُوسَك (ط): سموسہ۔

۴۔ السُنبُوق: ڈونگا، چھوٹی کشتی۔ عام لوگ اسے سُنبُك کہتے ہیں (فارسی)

۵۔ السنبك جمع سَنَابِك: سُم، کھر کا کنارہ، ہر چیز کا شروع، سخت اور بنجر زمین۔ ـــ من السیف: تلوار کے منقش قبضہ کا کنارہ۔ من بیضۃ الحدید: خود کی چوٹی۔ من المطر: بارش کا شروع کہتے ہیں۔ طلب الرزق فی سنابك الارض: اس نے روزی کی تلاش زمین کے اطراف میں کی (فارسی)۔

○ سُنبُك جمع سَنَابِك و سنبوك جمع سَنَابِیك: بجرا، ہلکی کشتی، کشتی۔ سُنبُك جمع سَنَابِك: سُم، کھر کا پنجہ، کھر، ستاری، ستالی، پنج، چھیدنے کا آلہ۔

۶۔ سَنبَلَ الزرعُ: کھیتی کا بالیاں نکالنا۔ الرجلُ ثوبَہ: کپڑا گھسیٹ کر چلنا۔ السُنبُل واحد سُنبُلۃ جمع سَنَابِل و سنبلات من الزرع کا لبرّ و الشعیر: گیہوں یا جو کی بالی۔ ایک خوشبودار گھاس۔ بال، بالی۔ السنبل الرومیّ: ایک خوشبودار بوٹی، آسمان کے ایک برج کا نام۔

سنت: ۱۔ اَسنَتَ القومُ: قوم کا قحط زدہ ہونا، خشک سالی سے دوچار ہونا۔ سانتوا الارضَ: نباتات تلاش کرنا۔ عام سَنِتٌ: قحط کا سال۔ رجل سَنِتٌ: بے خیر آدمی۔ عام سَنِیت و مُسنِتٌ: قحط کا سال۔ المُسنِت: وہ محتاج و مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ سَنَّتَ القِدرَ: ہانڈی میں زیرہ ڈالنا۔ المَسنُوت والسِنَّوت: زیرہ بعض کے نزدیک شہد، پنیر۔

سنج: ۱۔ سَنَجَ ۔ سُنجًا الثوبَ: کپڑے کو اس کے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں رنگنا۔ السِناج: چراغ کے دھوئیں کا دیوار وغیرہ پر نشان۔ ۔ السَنیج: چراغ السُنجَة: سفید وسیاہ رنگ۔ ثوبٌ مُسَنَّج: دھاریدار سفید وسیاہ رنگ کا کپڑا سفید وسیاہ دھاریوں والا کپڑا۔

۲۔ سَنجَةُ المِیزَان جمع سَنَجات: باٹ (فارسی)

۳۔ السِنجاب والسُنجَاب (ج) گلہری

۴۔ سِنجَق جمع سَنَاجِق: جھنڈا (فارسی)

سنح: ۱۔ سَنَحَ ۔ سُنحًا و سُنُحًا و سُنُوحًا الامرُ او الرائیُ: کوئی کام پیش آنا یا کوئی رائے سوجھنا۔ لی الشِعرُ: شعر آسان ہونا۔ (میرے لئے) ۔ بکذا: کو اشارہ سے سمجھانا۔ بہ و علیہ: کو تنگی میں ڈالنا، تکلیف پہنچانا۔ الرجُلَ عن رأیہ: کو اسکی رائے سے پھیر دینا۔

۲۔ سَنَحَ ۔ سُنُوحًا و سَانَحَ سِیاحًا و مُسَانَحةً الطیرُ او الظبیُ: پرندہ یا ہرن کا بائیں جانب سے دائیں جانب گزرنا۔ تَسَنَّحَ من الریح: ہوا کی طرف پیٹھ پھیرنا۔ ۔ و استَسنَحَ ہُ عن کذا: کو کسی بارے میں کھوج کرنے کے لئے کہنا۔ السُنح: برکت السَانِح (فا) جمع سوانح: دائیں طرف سے آنے والا۔ اس کے مقابل بارح ہے جو بائیں جانب سے آئے۔ عرب سانح سے نیک فال اور بارح سے بدشگون لیا کرتے تھے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: مَنْ لی بالسانح بعد البارح: میرے لئے منحوس کے بعد مبارک کا کون ضامن ہوگا۔ السنیح جمع سُنُح: بمعنی سانح۔

۳۔ السُنح من الطریق: راستہ کا درمیان۔ السَنِیح جمع سُنُح: موتی، زیور۔

۴۔ السَنَحْنَح: رات کو نہ سونے والا۔

○ سنت: سنیت Cent سنتمتر جمع سنتمترات: سینٹی میٹر۔ سَنُجه جمع سِنَج و سَجَات: باٹ۔ سِنُجَہ جمع سِنج: سنگین (ترکی لفظ ہے) سِنجابی: خاکستری رنگ کا۔ سِنجاب: خاکستری رنگ کی گلہری، خاکستری رنگ کی گلہری کی پوستین، پشم۔ سُنُحاً و سنوحاً لِ: کو خیال آنا (خیال وغیرہ کا) کسی کے دل میں آنا، کو میسر آنا (خصوصا موقع کا) ل ب: کو کچھ دینا، بہم پہنچانا، مہیا کرنا۔ ہُ عن: کو (اسکی رائے) سے باز رہنے کے لئے کہنا، کو دلیل سے اسکی رائے کا مخالف کرنا۔ سَانِح جمع سَوَانِح: دیکھنے والے کی طرف اپنا دایاں رخ موڑنے والا (پرندہ، گیم) مبارک، مسعود، نیک شگون والا، مناسب، موافق (موقع)۔ سوانح: نیک شگون، مبارک مسعود علامات، خیالات، نظریات۔ سانحة: موقعہ، موقع۔

سنخ: ۱۔ سَنَخَ ۔ سُنُوخًا فی العلم: علم میں پختہ ہونا۔ سِنخ ۔ سَنَخًا الفمُ: منہ کا دانتوں سے خالی ہونا۔ تْ اَسنَانُہُ: کے دانتوں کی جڑوں کا تباہ ہونا۔ السِنخ: جمع اَسنَاخ و سُنُوخ: اصل۔ ۔ من السِن: دانت اُگنے کی جگہ۔ سِنخ النصل: پھل کا تیر کے اندر داخل کیا ہوا حصہ۔ ۔ الکلمة: کلمہ کا ماخذ۔

۲۔ سَنِخَ ۔ سَنَخًا من الطعام: بہت کھانا۔

۳۔ سَنِخَ ۔ سَنَخًا: بگڑنا، متغیر ہونا، صفت سَنِخٌ م سَنِخَة۔ السَنخَة و السَناخَة: بدبودار ہوا۔

۴۔ سِنخُ الحُمیَّ: بخار کا جوش۔ السَنَخ: اونٹ

○ سِنخ جمع اَسنَاخ و سُنُوخ: جڑ، اصل۔ سَنخ: (تیل کی) بدبو، پھپھوندی۔ سناخة: (تیل کی) بدبو، پھپھوندی۔ سَنِخ: بدبودار (تیل) پھپھوندی والا۔

سند: ۱۔ سَنَدَ ۔ سُنُودًا واستَنَدَ وتساند الیہ: پر اعتماد رکھنا۔ سَنَّدَ الشیءَ: کو سہارا دینا، مضبوط کرنا۔ سَانَدَ مُسَانَدَةً وسِنادًا الرجُلَ: کی مدد کرنا۔ ہُ علی العمل: کو کام کا معاوضہ دینا۔ -- ہُ الی الشیء: کو کسی چیز کا سہارا دینا، کسی چیز کو اس کا تکیہ یا سہارا بنانا۔ اَسنَدَہُ الی الشیء: چیز کو اس کا سہارا، تکیہ بنانا۔ الحدیثَ الی فلان: بات کو کس کی طرف منسوب کرنا۔ السَنَد جمع اُسناد: سہارا۔ ۔ ج سَنَدات (ت): قرض کی دستاویز۔ ناقةٌ سِنادٌ: لمبی ٹانگوں کی اونٹنی۔ طاقت ور، دبلی پتلی۔ الاسناد فی علم العربیة: عربی زبان کے علم میں دو کلموں کے درمیان نسبت تامہ واضح کرنا، مثلاً زیدٌ، قائمٌ: میں خبر کی نسبت مبتداء کی طرف کرنا۔ ۔ جمع اسانید عند اھل المناظرة: مناظرہ میں حوالہ دینا۔ السَندان جمع سنادین: آہرن، نہائی (فارسی) عام لوگوں کی زبان میں سِدّان السِندان: بڑا مضبوط آدمی۔ السِندانَة (ح): گدھی۔ المُسنَد من الحدیث جمع مَسَانِد و مَسانید: جس کی سند اس کے قائل تک پہنچائی جائے۔ المَسنَد و المِسنَد جمع مَسَانِد: جس پر ٹیک لگائی جائے۔ المُسانَدة فی الحرب (اع): یہ ہے کہ مثلاً توپ خانہ پیدل فوج کی مدد کرے۔ المُستَنَد: جس پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے۔ المتساندون: کہتے ہیں: خرج القومُ متساندین: لوگ مختلف جھنڈوں کے نیچے نکلے۔

۲۔ سَنَدَ ۔ سُنُودًا فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ للاربعین: چالیس کے پیٹے میں ہونا۔ اَسنَدَ فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ و۔ ہُ فی الجبل: کو پہاڑ پر چڑھانا۔ فی العدو: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ السَنَد جمع اَسناد: پہاڑ کا وہ حصہ جو دامن کوہ سے اونچا ہو۔

۳۔ سَنَدَ ۔ سُنودًا ذَنَبُ الناقةِ: ہلنے میں اونٹنی کی دم کا اِدھر اُدھر چوتڑوں پر لگنا۔

۴۔ سَنَّدَ: دھاریدار کپڑا پہننا۔ السَنَد: ایک قسم کی دھاریدار چادر۔

۵۔ سَانَدَ مُسَانَدَةً و سِنادًا شِعرَہ رفی شِعرہ: شعر میں مختلف ردیف ہونا۔ السِناد: قافیہ کا ہر عیب جو روی سے پہلے ہو۔

۶۔ السنید: منہ بولا بیٹا۔ المُسنَد: زمانہ، منہ بولا بیٹا، بنوحمیر کا طرز تحریر۔

۷۔ السِندَأو: سبک، جرات والا، پستہ قد، موٹے سر اور پتلے دبلے جسم والا۔ السِندَأوَة والسِندَأو: رومال جو پگڑی کو چکنائی سے محفوظ رکھنے کے لئے پگڑی کے نیچے رکھا جاتا ہے۔

۸۔ سَندَرَ: جلدی کرنا۔ السندرة: (مص) سرعت، ایک قسم کا پیمانہ۔ کہتے ہیں۔ اکیلُکمُ بالسیف کیلَ السندرہ: میں تمہیں وسیع پیمانے پر بری طرح قتل کروں گا۔ السَندَرِیّ: ایک بڑا پیمانہ، بہت دراز قد، مضبوط کمان، نیلے رنگ کا نیزہ (ح) شیر تلوار وغیرہ کا پھل، بڑی آنکھوں والا، عمدہ روی۔ و السَندَ والسِندَر: دلیر۔

۹۔ السِندرُوس: ایک قسم کا گوند، ایک معدنی چیز جو کہرباء کے مشابہ ہوتی ہے (یونانی)

۱۰۔ السُندُس: نہایت باریک ونفیس کپڑا (بردکیڈ یا ریشم کا) (فارسی)

۱۱۔ السندل (ح): ایک پرندہ، جراب۔

۱۲۔ السِندیان واحد سِندِیانَة (ن): سدابہار شاہ بلوط (فارسی)

○ اُسنِدَ التهمة الی: پر شبہ کا اظہار کرنا۔ سندات خشبیة: لکڑی کی پتلی تختیاں، لکڑی کی آڑیں۔ سندات: دستاویزات، رقم کی رسید، ریکارڈ، سیکیورٹی،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بانڈ، دستاویز، قرض، پرونوٹ۔ promissorry note سند شحن البضائع: جہاز پرلدنے والے مال کی فہرست Bill of lading رجال السند: اطلاع دینے والے، حکام، ارباب اختیار، مآخذ۔ اسانید: دستاویزی ثبوت، رقم کی رسیدیں، ریکارڈز، دستاویزات۔ استنادا الی: پرمبنی، کی بنیاد پر، کے باعث، کی سند سے، بسند۔ مُستَنِداً الی / علی: پراعتبار کرتے ہوئے۔ دار المستندات: دفتر خانہ، محافظ خانہ، پبلک ریکارڈ کا دفتر۔ مستندات الشحن: جہاز پرلدنے والے کی فہرستیں۔ bills of lading السند: سندھ پاکستان کے ایک صوبہ کا نام، جس کا دارالحکومت کراچی ہے۔ السندی: سندھی، سندھ کا رہنے والا، سندھی بولی بولنے والا، سندھی زبان کا۔

سنر: سنِر - سَنَراً: بدخلق ہونا۔ السنّار (ح) بلا۔ السِنَور جمع سنانیر (ح) بلا، سردار، دم کی جڑ (ع) گردن کا منکا۔ السنّور: لوہے کا ہر ایک ہتھیار، زرہ کے مانند چمڑے کا ایک لباس۔ سِنّارة جمع سنانیر: پ ن کے شکار کا سامان، مچھلی پکڑنے کا آلہ، کانٹا۔ السنسکریتیة: سنسکرت (زبان)

سنط: سَنُطَ - سَناطَةً و سَنِطَ - سَنَطاً: بے ریش ہونا یا ہلکی داڑھی والا ہونا۔ سِناط و سُناط و سُنوط جمع سُنُط و اسناط: بے ریش یا ہلکی داڑھی والا۔ السنط: ہاتھ کا گٹا، پہنچا۔ سنطبول: (ن) ایک درخت جس کا تنہ ملائم و نرم ہوتا ہے اور پھول گلابی رنگ کے ہوتے ہیں۔
۲۔ السَنطُور و السِنطِیر: ستار کی قسم کا ایک باجا جس کے تار تانبے کے ہوتے ہیں۔
۳۔ سَنطَلَ الرجلُ: سرجھکا کر چلنا۔ السَنطَلَة: (مص) لمبائی۔ السُنطالَة: سرجھکا کے آہستہ چال۔ السِنطِیل: لمبا دراز۔ المُسَنطَل (مفع): بہت سست چلنے والا جسے دیکھ کر یہ گمان ہو کہ اب گرا کہ گرا، بڑے پیٹ والا، بے ڈول۔

سنع: ا۔ سَنَعَ - وسَنُعَ - سَناعَةً وسُنوعاً: خوبصورت نازک بدن ہونا۔ سنیع م سَنِیعَة: خوبصورت نازک بدن۔ أسنَعَ الغلامُ: لڑکے کا دراز قامت و حسین ہونا۔ ــــ الرجلُ: خوبصورت بچوں والا ہونا، ہاتھ کے گٹے میں درد ہونا۔ السِنع جمع سِنعَة و أسناع: گٹے کے مقام پر چیر، بریدگی، گٹے کا جوڑ۔ السَنَع: خوبصورتی۔ الأسنَع م سَنعاء: دراز، لمبا، اونچا۔ کہتے ہیں۔ ھذا أسنع من ذاك: یہ اس سے بہتر اور لمبا ہے۔
۲۔ أسنَعَ الشيءَ: کو زیادہ کرنا۔
۳۔ السَنِیعَة جمع سَنائع: پہاڑی راستہ۔
۴۔ السُنعة (ح): نیولا، اوپر کے ہونٹ کے اندر کی طرف وسط میں ابھرا ہوا گوشت۔

سنف: ا۔ سَنَفَ - سَنفاً البعیرَ: اونٹ پر تنگ کسنا۔ أسنَفَ الأمرَ: کسی امر کو مضبوط و مستحکم کرنا۔ ــــ البعیرَ: اونٹ پر تنگ کسنا۔ سِناف البعیر جمع سُنُف و سُنُف و أسنِفَة: اونٹ کے مونڈھوں پر باندھا جانے والا کپڑا۔ السُنفتان و السَنَفتان: دو لکڑیاں جن میں کنویں کی چرخی باندھی جاتی ہے۔ السنیف جمع سُنُف و سُنُف و أسنِفَة: اونٹ کے مونڈھوں پر باندھا جانے والا کپڑا، تنگ۔ المِسناف جمع مَسانیف: وہ اونٹ جو اپنے زین کو آگے پیچھے کرتا رہتا ہو جس کی وجہ سے تنگ کسنا پڑے۔
۲۔ سَنَفَ - سَنَفات الناقةُ: اونٹنی کا اونٹوں سے آگے نکلنا۔ أسنَفَ البعیرُ: اونٹ کا چلنے میں اپنی گردن کو آگے نکالنا۔ ــــ ت الناقةُ: اونٹنی کا اونٹوں سے آگے نکلنا۔ ــــ ت الریحُ: ہوا کا تیز چلنا۔ البرقُ: بجلی کا نزدیک معلوم ہونا۔
۳۔ السَنَف جمع سُنُوف: وہ شاخ جس پر پتے نہ ہوں، بے پتوں کی ٹہنی۔ دانوں سے خالی پھلی۔ پتا۔ السِنف: گیہوں اور جو میں پیدا ہونے والا تلخ دانہ، جماعت، صنف۔ السِنفَة جمع سِنف و جمع سِنَفَة: پھلی ڈوڈا، مٹر وغیرہ کا چھلکا۔ السَنِیف جمع سُنُف و سُنُف و أسنِفَة: فرش کی گوٹ۔ المُسنِفَة من السنین: خشک سال۔ من الاراضی: قحط زدہ زمین۔

سنق: ا۔ سَنِقَ - سَنَقاً: بدہضمی ہونا، بعض اس کو حیوانات کے لئے مخصوص کرتے ہیں اور انسان کے لئے تخم بولا جاتا ہے۔ أسنَقَهُ النعیمُ: آسودہ حالی کا کسی کو آرام طلب بنا دینا۔
۲۔ السُنقُر و السُنقُور (ح): شکرے سے بڑا ایک شکاری پرندہ۔

سنك: السِنکِسار و السِنکسار: نصرانی گرجوں میں عوام کے سامنے پڑھے جانے والے صالحین کے سوانح حیات۔

سنم: ا۔ سَنِمَ - سَنَماً البعیرُ: اونٹ کا بڑے کوہان والا ہونا۔ ــــ النبتُ: پودہ کا شگوفہ دار یا بالیوں والا ہونا۔ سَنَّمَ الكلأُ البعیرَ: گھاس کا اونٹ کو موٹے کوہان والا کرنا۔ الاناءَ: برتن بھرنا۔ الشيءَ: کو بلند کرنا اٹھانا۔ ــــ القبرَ: قبر کو کوہان نما بنانا۔ ــــ المکیال: پیمانہ کو بھر کر دانوں کو چوٹی دار کرنا۔ ــــ أسنَمَ الكلأُ البعیرَ: گھاس کا اونٹ کے کوہان کو موٹا کرنا۔ ــــ الدخانُ: دھوئیں کا اٹھنا۔ ــــ ت النارُ: آگ کے شعلوں کا بلند ہونا۔ تَسَنَّمَ الناقةَ: اونٹنی کے کوہان پر سوار ہونا۔ ــــ الشيءَ: پر چڑھنا اور سوار ہونا۔ ــــ هُ الشیبُ: کسی پر بڑھاپے کے آثار بکثرت ظاہر ہونا۔ ــــ فلاناً: کو غفلت میں پکڑ لینا۔ السَنِم من الابل: بڑے کوہان والا اونٹ۔ من النبات: زمین سے اٹھا ہوا شگوفہ دار یا بالیوں والا پودا۔ السَنام (ج) أسنِمَة: کوہان۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ سَنامُ قومه: فلاں اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے۔ سَنَمَةُ النباتِ: شگوفہ، چوٹی۔ رجلٌ سَنِیم: بلند قد آدمی۔ التسنیم: جنت کے ایک چشمہ کا نام۔ المُسَنَّم من الجمال: وہ اونٹ جس پر سواری نہ کی جائے۔
۲۔ السِنِمّار (فلك): چاند، چور، جو رات کو نہ سوتا ہو۔
۳۔ السُنمُورَة (ح): ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جو نمک لگا کر خشک کی جاتی ہے۔

سنه: ا۔ سَنِهَ - سَنَهاً: بہت سالوں والا ہونا صفت سَنِهٌ۔ سانَهَ الرجلَ: کے ساتھ ایک سال کا معاہدہ کرنا۔ ــــ ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا سال بسال بار آور ہونا۔ تَسَنَّهَ: بمعنی سَنِهَ ــــ عنده: کے پاس سال بھر ٹھہرنا۔ السنة: باب سنو میں دیکھیں۔ السنهاء من النخل: سال بسال بار آور ہونے والا کھجور کا درخت۔ وہ کھجور کا درخت جو خشک سالی کی زد میں ہو۔ کہتے ہیں۔ سَنَةٌ سَنهاء: وہ سال جس میں نہ پیداوار ہو نہ بارش۔ السُنَیهَة: سَنَة کی تصغیر۔
۲۔ سَنِهَ - تَسَنَّهَ الطعامُ او الشرابُ: کھانے یا مشروب کا خراب ہو جانا۔ تَسَنَّهَ الخبزُ: بدبودار ہونا۔

سنا: ا۔ سَنا - سُنُوّاً و سَنوَةً و سُنُوّ و سِنایَةً السحابُ الأرضَ: بادل کا زمین کو سیراب کرنا۔ ــــ ت السماءُ: آسمان کا برسنا۔ ــــ علی الدابة: جانور پر پانی لانا۔ ــــ الدلوَ: ڈول کنویں سے کھینچنا۔ السانی جمع سُناة (فا): پانی لانے والا۔ السانیة: جمع سَوانٍ: رہٹ۔ دولاب (ح): کنویں سے پانی لانے والی اونٹنی۔ المَسنُوّ و المَسنیّ من الاراضی: چاہی زمین۔ المُسَناة جمع مُسَنَّوات و مُسَنَّیات: سیلاب کو روکنے والا بند کہا جاتا ہے۔ عقلوا مُسَنَّیاتٍ لحبس المیاه: انہوں نے بارش کے پانی کو روکنے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کے لئے بند بنائے۔
۲۔ سَنَا ۔ سُنُوًا و سَنَاوَةً وسُنُوًّا و سِنَايَةً البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ تِ النـار: آگ کی روشنی کا بلند ہونا۔ تَسَنّیً تَسَنِّیاً الشیءَ: پر چڑھنا۔ تِ العُقدَةُ: گرہ کھلنا۔
۳۔ سَنَا ۔ سُنُوًا و سَنَاوَةً وسُنُوًّا و سِنَايَةً الباب: دروازہ کھولنا۔ تَسَنَّتِ العقدةُ: گرہ کھلنا۔
۴۔ سَانَی سِنَاءً و مُسَانَاةً الرجلَ: کے ساتھ ایک سال کے لئے کام کرنے کا معاہدہ کرنا۔ السَنَة (ج) سُنُون و سِنُون و سَنَوات و سَنَهات: سال، ۱۲ مہینے۔ تصغیر سُنَيَّة و سُنَيْنَة و سُنَيْهَة: نسبت کے لئے۔ سَنَوِی و سَنَهِی: قحط، خشک سالی۔ سَنَةٌ سَنْوَاء: سخت سال۔ السَّنَة الضوئية: روشنی کا سال (فک) فاصلہ جسے روشنی ایک پورے سال میں طے کرے یعنی ۹۴۶۸ بلین میٹر۔ ہم سے قریب ترین ستارہ چار روشنی کے سالوں سے زیادہ دور ہے۔
۵۔ السَنَا (ن): ایک دست آور پھل والا درخت۔
۶۔ السُنُونُو واحد سنونوة و سُنُونِيَة (ح): ابابیل۔

سني: ا۔ سَنَی ۔ سَنْیاً الباب: دروازہ کھولنا۔ ۔ العقدةَ: گرہ کھولنا۔ ۔ سَنّی تَسْنِيَةً الامرَ: کام یا معاملہ آسان کرنا۔ سَانَی مُسَانَاةً و سِنَاءً الرجلَ: کو راضی کرنا، کی مدارات کرنا اور مطالبہ میں اس سے نرمی سے پیش آنا۔ تَسَنّی الامرُ: معاملہ کا تیار ہونا۔ ۔ الرجلُ: آدمی کا اپنے معاملات میں آسانی و نرمی کرنا۔ ۔ الرجلَ: کو راضی کرنا۔ ۔ القفلُ: قفل کا کھلنا۔
۲۔ سَنِيَ ۔ سَنَاءً: بلند مرتبہ ہونا۔ أسنَی اسناءً البرقُ: بجلی کا چمکنا اور کوندنا۔ ۔ النارَ: آگ روشن کرنا۔ ۔ لہ الجائزةَ: کو اعلیٰ انعام دینا۔ کہتے ہیں جاورتُہ وأسنی جواری: میں اس کا پڑوسی ہوا تو اس نے حق ہمسائیگی ادا کیا۔ السَنی: بجلی۔ السَناء (مص): بمعنی سَنی: روشنی، بلندی۔ السَنِیّ م سَنِيَّة: بلند مرتبہ۔ السَنَايَا: شریف بلند شان والا آدمی۔ کہتے ہیں۔ رجلٌ سَنَايَا: یعنی رفیع الشان مرد (جمع کے صیغے میں مفرد)
۳۔ أسنَی اسناءً القومُ: کسی جگہ ایک سال رہنا۔
۴۔ تَسَنّی الشيءُ: متغیر ہونا، خراب ہونا۔
۵۔ السَنَی: ریشم۔ السَنَا (ن): ایک دست آور پھل کا درخت۔ السِنَايَة: تمام چیز۔ کہتے ہیں۔ اخذتُہ بسنايته: میں نے وہ ساری کی ساری لے لی۔
○ مُسَنَّاة جمع مُسَنِّيَات: حفاظتی بند (جیٹی) ڈیم۔
سِنُودس: کلیسائی مجلس (synod)

سنوی: سالانہ۔ سنویا: سال کے سال، فی سال۔
سهب: ا۔ سَهَبَ ۔ سَهْباً الشيءَ: چیر لینا۔ أُسْهِبَ: بیماری، محبت یا خوف سے عقل جاتی رہنا اور رنگ بدل جانا۔
۲۔ أَسْهَبَ الكلامَ و في الكلام: تفصیل سے بات کرنا۔ صفت مُسْهِب و مُسْهَب: موخر الذکر کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ ۔ الرجلُ: بہت داد و دہش کرنا، حرص و لالچ کرنا۔ ۔ الفرسُ: گھوڑے کا فراخ، فراخ قدم رکھنا۔ أسهبوا الدابةَ: جانور کو چرنے کے لئے چھوڑ دینا۔ أُسْهِبَتِ البئرُ: کنوئیں کا زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے اس کے پانی تک نہ پہنچ پانا۔ صفت: سَهِبَة و مُسْهَبَة۔ اِستَهَبَ: بہت بخشش دینا۔ السَهْب: (مص) بیابان، وقت (کہتے ہیں مضی سَهْبٌ من الليل: رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔) ۔ من الخيل: کشادہ قدموں سے تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ السُهْب والسَهْب من الارض جمع سُهُوب: کشادہ، ہموار زمین، کہتے ہیں۔ قطعوا سَهْبًا او سُهُبًا من الارض: انہوں نے کشادہ ہموار زمین طے کی۔
○ أَسْهَبَ عن: کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنا، شرح و بسط سے گفتگو یا کلام کرنا، کے متعلق تفصیل سے بیان کرنا، پر تفصیل سے روشنی ڈالنا۔ باسهاب: تفصیل سے۔ مُسْهِب و مُسْهَب: مفصل۔
سهج: ا۔ سَهَجَ ۔ سَهْجًا تِ الريحُ: ہوا کا لگاتار تیز چلنا۔ ۔ ت الريحُ الارضَ: ہوا کا زمین کو چھیلنا۔ ۔ الطيبَ: خوشبو گھسنا، رگڑنا۔ الساهج جمع سُهَّج و السَيْهَج و السَهُوج و السَيْهُوج من الارياح: سخت تیز ہوا، آندھی۔ المَسْهَج: تند ہوا کی گزرگاہ وہ جگہ جہاں تیز ہوا چلتی ہو۔ المِسْهَج: حق و باطل پر گفتگو کرنے والا، فصیح و بلیغ۔ السَهْجَة: چیخ پکار۔
۲۔ سَهَجَ ۔ سَهْجًا القومُ ليلتَهم: لوگوں کا رات بھر چلتا رہنا۔
سهد: ا۔ سَهِدَ ۔ سَهَدًا و تَسَهَّدَ: جاگتے رہنا، کم نیند والا ہونا۔ سَهَّدَهُ: کو جگا رکھنا، بیدار رکھنا کہتے ہیں۔ سَهَّدَهُ الهمُّ: غم نے اسے جگائے رکھا، سونے نہ دیا۔ السُهْد و السُهَاد: بے خوابی۔ السُهُد: جاگنے والا، کم نیند والا کہتے ہیں۔ رجلٌ سُهُد و عينٌ سُهُد: کم نیند والا آدمی، آنکھ جس میں نیند نہ ہو۔ تھوڑی نیند۔ السَهْدة: بیداری کہتے ہیں۔ ما رأيت منه سَهْدَةً: میں نے اس میں بھلائی کی طرف توجہ اور رغبت نہیں پائی۔ الأَسْهَد: کہتے ہیں۔ [illegible]

ہوشیار اور بیدار مغز ہے۔ المُسَهَّد: کم خواب آدمی۔
۲۔ السَهْوَد: بہت لمبا۔ کہتے ہیں۔ غلامٌ سَهْوَدٌ: نازک اندام نوجوان لڑکا۔
○ سُهْد، سُهُد، سُهاد: بے خوابی۔ ساهِد: جسے نیند نہ آئی ہو، بیدار۔
سهر: ا۔ سَهِرَ ۔ سَهَرًا: رات کو نہ سونے والا ہونا، رات بھر جاگتے رہنا۔ صفت۔ ساهِر و سَهران: کہتے ہیں۔ ليلةٌ ساهِرة: رت جگے کی رات۔ ساهَرَهُ: کے ساتھ جاگنا۔ اسْهَرَهُ: کو جگائے رکھنا۔ الساهِرة: چاند، زمین، سطح زمین، کیونکہ نباتات میں اس کا عمل دن رات جاری رہتا ہے۔ ہمیشہ بہنے والا چشمہ۔ ساهر کا مونث۔ الساهور: بیداری، چاند کا ہالہ، چاند کہتے ہیں۔ دخل القمرُ في الساهور: یعنی چاند گہن میں آ گیا۔ ساهورُ عينِ الماء: چشمہ کا منبع۔ السُهار: بیداری، بے خوابی کہتے ہیں۔ رجلٌ سُهارُ العين: وہ آدمی جس پر نیند غالب نہ ہو۔ السَهّار و السُهَرَة: بہت جاگنے والا۔ المِسْهار: جاگنے کی سکت والا۔
۲۔ سَهِرَ ۔ سَهَرًا البرقُ: بجلی کا رات کو چمکنا۔
۳۔ الساهور: زیادتی۔ الأَسْهَران (ع ا): آنکھ کی دو رگیں، ناک کی دو رگیں۔
○ سَهِرَ ۔ سَهَرًا: نیند نہ آنا، رات جاگ کر گزارنا۔ سهر الليل: بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ ۔ على: رات کسی نہ کسی کام میں گزارنا، پر پہرہ دینا، کی نگہبانی کرنا، اپنے مفادات وغیرہ کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، پر توجہ کرنا۔ ۔ في حفلة: شام یا رات کی کسی تقریب میں شرکت کرنا۔ أسْهَرَهُ: کو سونے نہ دینا، جاگتا رکھنا۔ طال عنده سهري: میں نے ایک طویل شام اس کے ساتھ گزاری۔ سَهْرَة جمع سَهَرات: شام، شام کی تقریب، محفل شام کا اجتماع، شام کا شو یا پروگرام۔ سهرة ليلية: مندرجہ بالا معنی۔ ثياب او لباس السهرة: شام کا لباس۔ سَهْران: بے خواب [illegible] بیدار، چوکنا، چوکس۔ سَهّار: عا[illegible] دیر تک بیدار رہنے والا اور گھر سے باہر رہنے والا۔ مَسْهَر جمع مَسَاهِر: نائٹ کلب night club حفلة ساهرة: شام کی پارٹی، شام کی تقریب، شو یا پروگرام، محفل شب، رات کی محفل۔
سهف: ا۔ سَهَفَ ۔ سَهْفًا القتيلُ: مقتول کا حالت نزع میں بے قرار ہونا۔ سَهِفَ ۔ سَهَفًا: ہلاک ہونا۔ الساهِف (فا): ہلاک ہونے والا۔
۲۔ سَهِفَ ۔ سَهَفًا: سخت پیاسا ہونا، کو بہت پیاس لگنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

السَّاهِف جسے حالت نزع میں سخت پیاس لگے۔ السُّهاف وہ بیماری جس میں سیرابی نہیں ہوتی۔ طعامٌ مُسْهِفَةٌ بہت پانی پلانے والا کھانا۔ رجلٌ مَسْهُوفٌ بہت پانی پینے والا آدمی جس کو سیری نہ ہوتی ہو۔

۳۔ اسْتَهْفَ ہُ: کو خفیف سمجھنا۔

۴۔ سَاهِفُ الوجہ متغیر چہرے والا۔ السَّهَف مچھلی کے چھلکے۔

○ سَهِف - سَهَفاً بہت پیاسا ہونا۔ سُهاف سخت پیاس۔

سہق: السَّهْوَق بڑا جھوٹا۔ دراز، ٹانگوں والا، درخت کا تنہ جسے خوب سیراب کیا جاتا ہو۔ السَّهْوَق کشادہ قدم والا۔

سہک ۱۔ سَهَك - سَهَكَاتِ الریحُ ہوا کا بہت تیز چلنا۔ ۔تِ الریحُ الترابَ عن وجه الارض ہوا کا زمین کی سطح سے مٹی اڑانا۔ ۔۔۔ الشیءَ کو گھسنا، رگڑنا۔ ۔ۃ سُهُوكاتِ الدابةُ جانور کا ہلکی چال چلنا۔ ریحٌ سَاهِكَةٌ جمع سَوَاهِك و سَاهِكات: سخت آندھی۔ السَّهَّاك بہت تیز گفتار والا۔ ریحٌ سَهُوكٌ و سَيْهُوكٌ و مُسْهِكَةٌ تند و تیز ہوا۔ السَّيْهَك ہوا کا اڑایا ہوا غبار۔ ریحٌ سَيْهَكٌ بہت تند ہوا۔ المِسْهَك: بہت تیز گفتار والا، طرار۔ من الخیل: تیز رو گھوڑا۔ السَّنْهَك و المَسْهَكة: سخت تیز ہوا کی گزرگاہ۔

۲۔ سَهِكَ - سَهَكاً بدبودار ہونا۔ صفت سَهِكٌ۔ کہتے ہیں۔ یدی سَهِكَةٌ من السمك میرا ہاتھ مچھلی سے بدبودار ہے۔ السَّهَك: لوہے کا زنگ۔ والسُّهْكة و السَّهُوكة پسینہ یا سڑے ہوئے گوشت یا مچھلی کی بدبو۔

سہل: ۱۔ سَهُلَ - سُهُولَةً المكانُ جگہ کا نرم ہونا۔ سُهُولةً و سَهَالةً الامرُ کام کا آسان ہونا۔ صفت: سَهْلٌ و سَهِلٌ۔ سَهَّلَ الامرَ لهُ و علیه کام کو کسی کے لئے آسان کرنا۔ ۔۔۔ الموضعَ جگہ کو نرم بنانا۔ سَاهَلَ مُسَاهَلَةً ہُ سے نرمی اور سہولت کا برتاؤ کرنا۔ اَسْهَلَ: پہاڑ سے میدان میں اترنا۔ ۔۔۔ ہُ الدواءُ: دوا کا پیٹ کو نرم کرنا۔ ۔۔۔ الرجلُ: لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، دست والا ہونا۔ ۔ الامرَ: کام کو آسان پانا۔ تَسَهَّلَ الامرُ: کام وغیرہ کا آسان ہونا۔ کہتے ہیں: ماتَسَهَّلَ لی اَن اَفْعَلَهُ: میرے لئے یہ کرنا آسان نہیں۔ تَسَاهَلَ الرجلان: ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ ۔الامرُ علیه: کام کا کسی پر آسان ہونا۔ استَسْهَلَ المكانَ کسی جگہ کو نرم سمجھ کر اقامت کرنا۔ استسهل ہُ کو آسان سمجھنا۔ السَّهْل جمع سُهُول و سُهُولة: نرم ہموار زمین نسبت کے لئے سُهْلِی: جیسے بعیر سُهْلِی: نرم زمین میں چرنے والا اونٹ۔ ارضٌ سَهْلٌ نرم ہموار زمین۔ سَهْلُ الوجه: رخساروں پر کم گوشت والا۔ سهلُ الخلق: نرم خو، نرم طبیعت والا کہتے ہیں۔ اَهْلاً و سَهْلاً: (استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں) تم اپنوں ہی میں آئے نہ کہ غیروں میں تم نے نرم زمین پر قدم رکھا نہ کہ سخت زمین پر۔ السِّهْل ریت کی طرح کی مٹی جس کو پانی بہالاتا ہے۔ السِّهْلة: بمعنی السِّهْل، اِسہال دست۔ الاِسْهَال: دست، دست آنا، السَّهُول: دست آور دواء۔

۲۔ سُهَيْل (فلك) ایک روشن ستارہ جو گرمی کے آخر میں طلوع ہوتا ہے مشہور ہے کہ اسکی خاصیت سے کیریلے مرجاتے ہیں اور یمن میں عمدہ چمڑا تیار ہوتا ہے۔

○ لایسهل اَنْ: مشکل ہے، بمشکل۔ سهل الاستعمال: استعمال میں آسان۔ سهل الهضم: آسانی سے ہضم ہونے والا، ہلکا (کھانا وغیرہ) عُمْلَةٌ سهلة: سافٹ کرنسی۔ کان من السهل علیه: کے لئے آسان ہونا۔

سهُوْل: (صفت و اسم) خلاف مُسهِل قبض کشا، ملیّن، قبض کشا دوا، دست آور دوا۔ بسهولة: آسانی سے۔ تساهل: شفقت، کرم، نرمی شرافت، نرمی، بردباری، برداشت، صبر، نرم مزاجی، بے پروائی، غفلت، بے پروائی۔ مُسْهِل دست آور۔ جمع مُسْهِلات قبض کشا دوا۔ دست آور دوا۔ مُسْهَل: جس کو دست لگے ہوں۔

سہم: ۱۔ سَهَمَ - وسَهُمَ - سُهُومَةً و سُهُوماً: دبلے پن سے رنگ متغیر ہونا۔ وجهُهُ تیوری چڑھانا۔ السَّاهِمة من النوق جمع سَوَاهِم دبلی اونٹنی۔ السُّهام: لاغری کے ساتھ رنگ کی تبدیلی۔ ۔۔۔۔ والسُّهَام اونٹوں کی بیماری۔ رجلٌ مُسْهَمُ الجسم محبت میں لاغر ہونے والے جسم والا۔ المُسْهَمُ والمَسْهُوم من الابل بیمار اونٹ۔

۲۔ سَهَمَ - سُهُومَةً و سُهُوماً ہُ پر قرعہ اندازی میں غلبہ آنا۔ ساهَمَ ہُ کے ساتھ قرعہ اندازی کرنا۔ فی الامر میں شرکت کرنا، حصہ لینا۔ اُسْهِمَ بین القوم کے درمیان قرعہ ڈالنا۔ ۔۔۔ لهُ فی کذا میں کسی کا حصہ رکھنا۔ تَسَاهَمَ القومُ آپس میں قرعہ اندازی کرنا۔ القومُ الشیءَ کو آپس میں بانٹ لینا۔ اسْتَهَمَ القومُ آپس میں قرعہ اندازی کرنا۔ السَّهْم جمع سِهَام: جوئے کا تیر، جس سے قرعہ ڈالتے ہیں۔ تیر۔ جمع اَسْهُم و سُهْمَة و سُهْمَان: حصہ۔ (اصابه فی القسمة سَهْمَان: تقسیم میں اسے دو حصے ملے)۔ چھ ہاتھوں کے پھیلاؤ کی مقدار۔ سهمُ الرامی (فلك): ایک ستارہ۔ السُّهْمَة: قرابت، تقسیم۔ حصہ۔ السهیم: حصہ دار، شریک۔ المُسْهَم: لاغر، متغیر رنگ والا، دوغلا گھوڑا۔ المُسَهَّمة من الثیاب: دھاری دار کپڑا۔

۳۔ سُهِمَ: لو لگنا۔ السَّهام: لو کی گرمی، گرمی کی شدت۔ السُّهُمُ: سورج کی کرنیں، سخت گرمی۔

۴۔ اَسْهَمَ فی الکلام: لمبی گفتگو کرنا۔ صفت مُسْهِم و مُسْهَم۔ المُسْهَم: مفصل

۵۔ السُّهُم: عقلاء، حکماء، دانشمند لوگ، دانا لوگ۔ السَّهَام: ترمرے یعنی لکڑی کے جال کی طرح موسم گرما میں فضا میں نظر آنے والی چیز۔

○ سَهَمَ - سُهُوماً: سنجیدہ نظر آنا، سنجیدگی کا مظہر ہونا۔ ساهَمَ ہُ کے ساتھ قرعہ ڈالنا۔ قرعہ نکالنا۔ ۔۔ فی: میں شریک ہونا حصہ لینا، میں شرکت کرنا، میں حصہ دار ہونا۔ أسْهَمَ له فی: کو کسی چیز میں حصہ دینا، کو کسی چیز میں حصہ دار بنانا۔ سَهْم جمع سِهَام و اَسْهُم و سُهُوم: تیر، چھوٹی برچھی جمع اَسْهُم: حصہ۔ سهم ناری: راکٹ۔ اَسْهُمُ التاسیس: بانیوں کے حصے، اصلی حصے۔ اَسهم القرض: بونڈ، گورنمنٹ لونڈ۔ حَمَلَةُ الاَسهم: شراکت دار۔ سٹاک ہولڈرز Stock holders۔ نفذ السهم: قطعی فیصلہ کرلیا، جو ہونا ہو۔ ضرب بسهم مصیب فی: میں عملی حصہ لینا، میں عملی طور پر حصہ لینا۔ سُهُوم: سنجیدگی، سنگینی غم، الم، غمناکی، غم انگیزی، دردناکی۔ اسهمی: حصہ یا سٹاک کا، حصہ یا سٹاک سے متعلق۔ مساهمة فی: میں حصہ لینا، شرکت کرنا، حصہ دار ہونا۔ شرکةُ المساهمة: جائنٹ سٹاک کمپنی، کارپوریشن۔ ساهِم: سنجیدہ رو، سنجیدہ وضع قطع والا، سنجیدہ چال ڈھال والا۔ مُسَاهِم: حصہ دار، شراکت دار، سٹاک ہولڈر (Stock holder)

سہا: ۱۔ سَهَا - سَهْواً و سُهُوّاً فی الامر و عن الامر: سے غافل ہونا، بھول جانا، دل کا دوسری طرف پھرنا۔ صفت۔ ساہٍ و سَهْوَانٌ۔ ۔۔ الیه: کی طرف نیچی نگاہ سے دیکھنا۔ کہتے ہیں۔ مالٌ لا یُسهَی و لا یُنهَی: مال اتنا زیادہ ہے کہ شمار و قطار میں ہی نہیں آتا۔ سَهُوَ - سَهَاوَةً الفرسُ: گھوڑے کا جلد رام ہو جانا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

صفت: سَهُوٌ۔ سَاهَى الرجُلَ في المعاشرة: کے ساتھ نرمی کرنا اور خوش خلقی سے برتاؤ کرنا۔ ۔۔ هٗ: کو غافل کرنا، سے استہزا کرنا۔ السَّهْو جمع سِهَاء: (مص) سکون، نرمی کہتے ہیں۔ اِفْعَلْهُ سَهْوًا رَهْوًا: اس کو کسی تقاضے کے بغیر خود بخود آسانی سے کرو۔ حملٌ سَهْوٌ: سدھایا ہوا، مطیع اونٹ۔ ماءٌ سَهْوٌ: صاف مقطر پانی۔ امرٌ سَهْوٌ: آسان کام۔ ريحٌ سَهْوٌ: نرم ہوا۔ السُّهَى و السُّهَا (فلک): بنات نعش میں ایک چھوٹا ستارہ۔ اس کے ذریعے لوگ اپنی آنکھوں کا امتحان لیتے ہیں جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور وہ اس کا بے تکا جواب دے تو کہتے ہیں۔ اُريها السُّهى و تريني القمر: سوال گندم جواب چنا۔ السَّهْوَة: مونث السَّهْو، سَهَا کا اسم مرة۔ جمع سِهَاء: نرم کمان۔ السَّاهي (فا): کہتے ہیں۔ بعيرٌ ساهٍ راهٍ: ہلکی نرم رفتار کا اونٹ۔ جمع جمالٌ سَوَاهٍ رَوَاهٍ: وہ شخص جسے حماقت یا انتظار خیالی سے نیند آجائے۔ (عام لوگوں کی زبان میں)

۲۔ سَهَّى هٗ: فرائی پان میں گرم کر کے خشک کرنا۔

۳۔ أَسْهَى الرجُلُ: سهوة بنانا: (دیکھو سهوة)
السَّهْوَة جمع سِهَاء: الماری اور طاقچہ جیسی چیز جس میں کوئی چیز رکھی جائے۔ کھڑکی۔ صحن کے سامنے کا پردہ، روشندان، پانی کے سامنے کا خیمہ، پالکی۔

۴۔ السِّهْوُ السَّهْواء: رات کا ایک حصہ۔ السَّهْوَة جمع سِهَاء: پتھر کی چٹان۔ الأَسَاهِي: الوان، رنگ (جمع) اس کا مفرد نہیں ہوتا۔

۵۔ سَهْوَكَ هٗ: کو پچھاڑنا، ہلاک کرنا۔ تَسَهْوَكَ: پچھڑنا، ہلاک ہونا، واپس ہونا، آہستہ چلنا۔

○ سَهَا۔ سَهْوًا و سُهُوًّا: کا متوجہ نہ ہونا، کا دماغ حاضر نہ ہونا، کے خیالات کا منتشر ہونا۔ ۔۔ عن: کو نظر انداز کرنا، سے غفلت کرنا، کو بھول جانا، چھوڑ دینا، سے چشم پوشی کرنا۔ سُهِيَ عليه: کسی خیال میں غرق ہونا، کھویا ہوا ہونا۔ سَهْــو: عدم توجہ، بے توجہی، نادانستگی، پراگندہ دماغی، خیالات میں کھویا ہوا ہونا، گم ہونا، مستغرق اور غافل ہونا۔ سَهْــوًا: بے توجہی سے، غفلت سے، غلطی سے، نادانستہ، بے پروائی سے۔ سَهْوَة: ایک قسم کا طاق، محراب۔ سَاهِيًا لَاهِيًا: تفکرات سے آزاد ہو کر اپنا دل بہلاتے ہوئے مکمل طور پر آرام سے۔

ساء: ا۔ سَاءَ ۔ سَوْءًا و سُوْءًا و سَوَاءً و سَوَاءَةً و سَوَايَةً و سَوَائِيَةً و مَسَاءً و مَسَاءَةً و مَسَايَةً و مَسَائِيَةً الامرُ فلانًا: کسی بات کا فلاں کو غمگین کرنا اور اس کے ساتھ وہ کرنا جو اسے برا لگے۔ بہ ظنًّا: پر بدگمانی کرنا۔ ۔۔ الشيءُ: قبیح ہونا، برا ہونا۔ سَاءَتْ سِيْرَتُهٗ: اس کا رویہ بگڑ گیا۔ سَوَّأَ تَسْوِئَةً و تَسْوِيئًا هٗ: کو خراب کرنا۔ ۔۔ عليه عملَهٗ: کے کام پر اس کو ملامت کرنا، سرزنش کرنا۔ اَسَاءَ إسَاءَةً الشيءَ: کو بگاڑنا، خراب کرنا۔ ۔۔ اليه: کے ساتھ برائی کرنا ۔۔ به الظنَّ: پر بدگمانی کرنا۔ اِسْتَاءَ: ناگوار طور پر متاثر ہونا، کو برا لگنا، ناگوار گزرنا، دل کو دکھ پہنچنا۔ برہم ہونا، پریشان ہونا، غصہ ہونا، ناخوش ہونا۔ ۔۔ عن (من سے، پر، کے متعلق وغیرہ) السُّوْءُ: فساد، بگاڑ، خرابی، برائی۔ رجُلُ سَوْءٍ و رجلُ السَّوْءِ: برا آدمی، بدکار آدمی۔ السُّوء جمع اَسْوَاء: ساءہ کا اسم۔ آفت، شر و فساد۔ ما انكرك من سُوءٍ: میرے تمہیں پہچاننے سے انکار کی وجہ تمہارے متعلق عدم واقفیت کی وجہ سے تھی نہ کہ تم میں کوئی برائی دیکھنے کی وجہ سے۔ السَّوْءَةُ جمع سَوْءَات: بے حیائی، بری خصلت، شرمگاہ۔ السَّوْءَاء: بری خصلت، بری عادت، بدشکل عورت۔ السَّيِّئُ: برا، قبیح کہتے ہیں۔ هو سَيِّئُ الظنِّ: وہ لوگوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا۔ السَّيِّئَة جمع سَيِّئَات: سَيِّئ کا مونث۔ برائی، بدی، خطا کاری۔ الأَسْوَأ م سُوْأَى: اسم تفضیل، سب سے برا، بدشکل قبیح۔ المَسَاءَة جمع مَسَاوِئ: برا کام یا بری بات۔ المَسَاوِئ: عیوب و نقائص۔

۲۔ السُّوء: آگ، آنکھ کی کمزوری۔ السُّوأى: جہنم کی آگ۔

○ سَاءَ به ظنًّا: کے متعلق بدگمان ہونا، کے متعلق بری رائے رکھنا۔ سَاءَ طالِعُهٗ: وہ ایک برے ستارے کے نیچے آگیا، وہ بدقسمت تھا۔ يسوءني: مجھے افسوس ہے۔ اساء استعمالَهٗ: کو غلط استعمال کرنا۔ اساء معاملتَه: سے برا سلوک کرنا۔ اساء الفهمَ: غلط فہمی کرنا۔ غلط سمجھنا۔ سُوءُ البخت: بدقسمتی۔ سُوءُ الحظّ: بدقسمتی، بدنصیبی۔ لسوء الحظ: بدقسمتی سے۔ سوءُ الخُلُق: بدخلقی۔ سوء الحال: برے حالات۔ سوء الحالة: بری صورت حال، ناگوار صورت حال، خطرناک صورت۔ سوء الادارة: نظم و نسق کی خرابی۔ بدانتظامی۔ سوء السلوك: بدسلوکی۔ سوء الظن: بدگمانی۔ سوء العلاقات: برے تعلقات۔ سوء المعاملة: بدسلوکی۔ سوء الاستعمال: غلط استعمال۔ سوء الفهم: غلط فہمی۔ سوء التفاهم: باہمی غلط فہمی یا ناموافقت۔ سوء القصد و سوء النية: بدنیتی۔ سوء الهضم: بدہضمی۔ سوءةً لك: تمہیں شرم آنی چاہئے۔ سيّئ الحظ: بدقسمت۔ سَيِّئ الخلق: بدخلق۔ سيّئ التربية: بری تربیت والا۔ سيّئ السُّمْعَة: بدنام۔ سيّئ الطبع: بدمزاج، بداطوار، بری طبیعت والا۔ سيّئ الطالع: بدقسمت۔ من سيّئ إلى أسوأ: بد سے بدتر۔ اساءة الظن: بدگمانی۔ إسَاءَةُ المعاملة: بدسلوکی۔

ساج: ا۔ سَاجَ ۔ سَوْجًا و سُوَاجًا و سَوَجَانًا: آہستہ آنا جانا۔

۲۔ سَوَّجَ و سَيَّجَ الكَرْمَ و نحوه او على الكرم: انگور وغیرہ کی بیل پر باڑ لگانا۔ السِّيَاج جمع سِيَاجَات و أَسْوِجَة و سُوُج: دیوار، باڑ (انگور وغیرہ کی بیل کی)

۳۔ السَّاج: ساکھو کا درخت۔ کشادہ، گول چادر۔ كساءٌ مُسَوَّج: گول چادر۔

○ ساج جمع سيجان: ساگوان، ہندوستانی شاہ بلوط۔ سياج جمع سياجات و أسوجه و أسياج: باڑ، جنگلا، احاطہ (مجازاً) فصیل، شہر پناہ۔

ساح: الساحة جمع ساح و سُوح و سَاحَات: گوشہ، کنارہ، گھروں کے بیچ کا چوک۔

○ الساحة: صحن، آنگن، انگنائی، چوک، کھلی جگہ، اکھاڑہ، دنگل، میدان۔ ساحة الحرب: میدان جنگ۔ ساحات المحاكم: عدالتیں۔ ساحة القتال: میدان جنگ، جنگی علاقہ۔ ساحة القضاء: عدالت، خصوصی عدالت، مرکز مباحث۔ ساحة الالعاب: کھیلوں کا میدان۔ بَرَّأَ ساحتَهٗ: کو بری کرنا۔ ساح ۔ سَوْحًا: سفر کرنا، ادھر ادھر گھومنا، مٹرگشت کرنا، سیاحت کرنا۔ سَوَّاح جمع سوّاحون: مسافر، سیاح۔ سائح جمع سائحون و سُيَّاح سُوَّاح: مسافر، سیاح۔

ساخ: ا۔ سَاخَ ۔ سَوْخًا في الطين: کیچڑ میں دھنس جانا۔ ۔۔ الشيءُ في الماء: پانی میں بیٹھ جانا۔ ۔۔ سُيُوخًا و سُوُوخًا و سَوَخَانًا ت بهم الارض: زمین کا کسی کو اپنے اندر نگل لینا۔ تَسَوَّخَ في الطين: کیچڑ میں دھنس جانا۔ السُّوَاخ و السُّوَّاخ و السَّوَّاخى و السَّوَاخِية: بہت کیچڑ۔ دلدل۔ کہتے ہیں۔ مُطِرنا حتى صارت الارض سُوَّاخى: اتنی بارش ہوئی کہ زمین کیچڑ بن گئی۔ کہتے ہیں۔ سطح [illegible] سواخى: دلدلی نشیبی زمین۔

۲۔ السُّوخية [illegible]: خشک ٹہنی۔
[illegible] ساخ في الارض: پاؤں کا زمین میں دھنس جانا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ساخت روحُهٗ:بیہوش ہونا،غش کھاجانا۔

ساد:۱۔ سَادَ-سِیادَةً وَ سُودَدًا و سُؤْدُدًا و سَیْدُودَةً و سُودًا:شریف ہونا،بزرگ ہونا۔ ــــ قومَهٗ: قوم کا سردار ہونا۔ ہٗ:شان وشرف میں کسی پر غالب آنا، صفت سَائِدٌ جمع سَادَۃ جمع سادات۔ سَوَّدَ:دلیر ہونا۔۔ ہٗ:کوسردار بنانا۔ ــــ الرجُلَ:کا سرداروں کو قتل کرنا۔ سَاوَدَهٗ:کیساتھ مکروفریب کرنا،سے سرداری یا بزرگی میں غالب آنا۔ أسَادَ اسادةً و أسْوَدَ اسْوادَاتِ المرأۃُ:عورت کا سردار کو جننا۔ اسْتَادَ القومَ:قوم کے سردار کوقتل یا گرفتار کرنا۔ فی بنی فلان:قوم کے سردار کی لڑکی سے نسبت چاہنا۔ السَّائِد جمع سادة و جمع سادات (فا) السُّود:(مص) سرداری۔ السُّودَد و السُّؤْدُد:بلندقدر،سرداری، منصب کی عظمت۔ السِیادَۃ (مص)لقب شرفی جیسے سیادتکم، سیادۃ المطران، سیادۃ الرئیس: (محترم،صاحب امتیاز اسقف اعظم اورفضیلت ماب جناب صدر) السیِّد جمع اسیاد و سادۃ و سیائد: سردار تخفیف کرکے سَیْد بھی بولتے ہیں۔عام لوگ اس میں ع کلمہ کوزیردیتے ہیں۔نصاری کے ہاں۔حضرت مسیح کا لقب ہے اور مسلمانوں میں ان لوگوں کا جو نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ السَّیِّدان: حضرت علی کے بیٹے حسن اورحسین۔ السَّیِّدۃ: حضرت مریم کا لقب۔عام لوگ سَیِّدَتِی کے بجائے سِتّی کہتے ہیں۔ الأسود من القوم: قوم کا بزرگ۔ کہتے ہیں۔ ھو اسود من فلان: وہ اس سے زیادہ بزرگ ہے اسکی تصغیر اُسَیْوِد و اُسَیِّد ہے۔

۲۔ سَوِدَ-سَوَدًا: کالا ہوجانا،سیاہ ہونا۔ ــــ الشیءَ: کوکالا کردینا،سیاہ کردینا۔ سَاوَدَهٗ:کورات کی تاریکی میں ملنا۔پر سرداری یا سیاہی میں غالب آنا۔ أسَادَ إسَادَةً تِ المرأۃُ:عورت کا کالے رنگ کا بچہ جننا۔ أسْوَدَ اسْوادَاتِ المرأۃُ: سیاہ رنگ کا بیٹا جننا۔ تَسَوَّدَ: کالا ہونا۔ اِسْوَدَّ اِسْوِدادًا: کالا ہونا،سیا ہونا۔ اسْوَادَّ اسْوِیدادًا:سیاہ ہونا۔ السَّود ج اسواد: اس کے ایک ٹکڑے کو سَودۃ کہتے ہیں:سیاہ پتھروں والا ہموار میدان۔ السَّودۃ: نخلستان۔ السَّوَاد جمع أسْودۃ و جمع أساوِد:سیاہی،وجود،بہت مال، بڑی تعداد۔ عند الکتاب والطباعین: مسودۃ۔ سَوَادُ اللیل:پوری رات۔ سَوَادُ البلدۃ:شہر کے اردگرد کی بستیاں اسی سے ہے۔ سَوَادُ العراق:بصرہ اورکوفہ کے مابین اوران کے گرد کے دیہات۔ سَوَاد الناس:عام لوگ۔ سواد العسکر: فوج کا اسلحہ، مشینیں اوراوزار۔ سَوَادُ العین: آنکھ کا سیاہ حصہ۔ سواد القلب:دل کادرمیان،دل کا سیاہ نقطہ۔ السُّوَاد: (طب)دانتوں کی بیماری۔ السَّوَادِیَّۃ و السُّوَدَانِیَّۃ: (ح)ایک قسم کی چڑیا۔ الأسْوَد جمع سُود و سُودان م سَوْدَاء:کالا سیاہ (ح)۔بڑا کالا سانپ اس کو حنش بھی کہتے ہیں۔ مِن العین: آنکھ کی پتلی۔کہتے ہیں۔ فلانٌ اَسْوَدُ الکبد:فلاں دشمن ہے جمع سُودُ الاکباد السھم الأسود:مبارک تیرجس سے برکت حاصل کی جائے۔ الأسْوَدَان:کھجوراور پانی۔(ح) سانپ اوربچھو۔ الحَبَّۃُ السَّوْداء:کلونجی۔ السَّوْداء والسُّوَیْداء: مالیخولیا کی بیماری،چار اخلاط میں سے ایک خلط۔ سَوْداءُ و سُوَیْداءُ القلب :دل کا سیاہ نقطہ۔ السُّودان:واحد سُودانی: (جمع اَسود کی) حبشی لوگ۔ المُسَوَّدۃ:غیرصاف شدہ پہلی تحریر۔اگر اصل پرنظرثانی کرلی گئی ہوتووہ مُبَیَّضَۃ:کہلاتا ہے۔ کالی شیشی۔ (عام زبان میں) والمُسَوَّدۃ من الایام: مصیبتوں اورآلام کے دن۔

۳۔ سَادَ-سِیادۃً و سُوْدُدًا و سُؤْدُدًا و سَیْدُودۃً و سُودًا الرجلَ :سے رازکی بات کہنا۔ سَاوَدَہٗ: سے پوشیدہ بات کرنا۔ تَسَوَّدَ :شادی کرنا۔ السُّواد: سَاوَدَہٗ :یعنی کسی سے رازکی بات کرنا کا اسم۔پوشیدہ گفتگو۔ السَّوَاد جمع أسْوِدۃ جمع أساوِد:وجود،سایہ، آپ کہتے ہیں۔ رأیتُ سَوَادًا : یعنی میں نے ایک وجوددیکھا،ایک سایہ دیکھا۔

۴۔ سَادَ-سُوَادًا الرجُلُ: زردی مائل پانی پینا۔ السُّواد : (طب) پیلا پن۔ ماءٌ مَسْوَدۃٌ:پانی جو پیلا ہوگیا ہو۔ المَسْوُود:رنگ پیلا پڑنے کی بیماری میں مبتلا۔

۵۔ سَاوَدَ الأسَدَ:شیرکو گیدنا۔کھدیڑنا۔ السِیدج سِیدان (ح) بھیڑیا،شیر۔ السِیدۃ (ح) بھیڑیے کی مادہ۔ السِیدان(ج) بھیڑیا۔

۶۔ السَّوْذَق والسَّوْذَق والسَّوْذَانِق و السَّوْذَنِیق (ح) شکرا،شاہین۔(فارسی)

○ سَادَ-سِیادۃ و سُودُدًا و سُؤْدَدًا ہٗ/ ہ : کا آقا، سربراہ،سردار،حاکم،فرمانبروا،ماہربننا یا بن جانا،پر حکومت کرنا۔کا حاکم ہونا۔ ــــ علی: میں کارواج ہونا۔عام ہونا (جیسے خیال کا) پر طاری ہونا (جیسے خاموشی کا) پرتسلط رکھنا،پرتفوق ہونا۔ السید فلان: جناب،مسٹرفلاں،سیدی فلاں،جناب،مسٹر۔ سید البحار الاعظم :بحریہ کا سپریم کمانڈر۔ سیدۃ جمع سیدات:گھر کی مالکہ،مالکن،بی بی جی،بیگم صاحبہ، استانی،آپاجی،لیڈی،مسز۔ السیدۃُ عقیلتُہٗ : کی بیوی،بیگم۔سیادۃ: کمان،پوری مہارت،پوراغلبہ، کمال،غلبہ،تسلط،برتری،تفوق،اقتدار اعلیٰ،حکومت، حاکمیت، خطاب اور تخاطب کی ایک شکل جیسے۔ سیادتکم :جناب عالی، سیادۃ المُطْران: صاحب امتیاز۔ اسقف اعظم سیادۃُ الرئیس فضیلت، عزت مآب جناب صدر۔ دولۃٌ ذاتُ سِیادۃ :خودمختار، آزاد،ریاست۔ سائد: چھائی ہوئی رائج،عام(رائے، احساس،خاموشی)۔

سَوْدَنَ: سوڈانی بنانا(مصدر سَوْدَنۃ)

سار:۱۔ سَارَ-سُوْرًا الحائطَ : دیوار پر چڑھنا۔ سَوَّرَ المدینۃَ: شہر کے اردگرد،شہرپناہ بنانا۔ ــــ المرأۃَ: عورت کوکنگن پہنانا۔ الحائطَ: دیوار پر چڑھنا۔ تَسَوَّرَ: کنگن پہننا۔ الحائطَ و علیہ :دیوار پر چڑھنا۔ السُّور جمع أسْوار و سِیْران: شہر کے گرد دیوار، فصیل۔ السُّوْرۃ جمع سُوَر و سُوْر و سُوْرات و سُوَرات :خوبصورت اونچی عمارت،مرتبہ۔ (کہتے ہیں۔ لہ عندک سُوْرۃ : تمہارے ہاں اس کا مرتبہ ہے۔ لہ سورۃ فی المجد : اس کو بزرگی میں منزلت حاصل ہے)۔فضیلت(کہتے ہیں:لہ علیک سُورۃ : اسے تم پرفضیلت ہے)۔شرف۔علامت۔ ــــ من الکتاب : کتاب کا مستقل حصہ۔ سُوْرۃ: بھی کہا جاتا ہے۔ سَوْرَۃ المجد: بزرگی کا اثر،بزرگی کی عظمت۔ السِوار والسُوار والأُسوار جمع سُوُر وأسْوِرۃ و أساوِر و أساوِرۃ و سُؤُور :کنگن۔ السُّوَّاری :بلندی۔ المِسْوَر والمِسْوَرۃ : جمع مَساوِر :چمڑے کا تکیہ۔ المُسَوَّر:کلائی کا وہ حصہ جس پرکنگن ہو۔ مَلِکٌ مُسَوَّرٌ:طاقتور بادشاہ۔

۲۔ سار-سَوْرًا و سُؤُورًا الیہ :پرکودنا۔ ــــ الشرابُ فی رأسہ :شراب کا سرکو چکرانا۔ ساوَرَ مِساوَرًا و مُساوَرۃً ہٗ: ایک دوسرے پرحملہ آور ہونا،حملہ کرنا۔ کہتے ہیں: ساورت الحیۃُ الراکبَ:سانپ سوار پرکودا،اس پر حملہ کیا۔ ہٗ الشرابُ:شراب کا کسی کے سرکو چکرادینا۔ السَّوْرۃ: سار کا اسم مرۃ۔ سَوْرَۃ الخمرِ : شراب کا جوش،کی تیزی۔ ــــ السلطان: سلطان کا دبدبہ اوراسکی جارحیت۔ ــــ البردِ : سردی کی شدت۔ سُوارالخمرِ :شراب کی تیزی اور جوش۔ السَّوَّار : جلد متوالا ہونے والا۔اپنے ہم پیالہ پرجھپٹنے والا۔ کلبٌ سَوَّارٌ:کٹکھنا کتا۔

۳۔ السُّوْر :عمدہ اونٹ۔کہتے ہیں۔ عندہ سُوْرٌ من الابلِ :اس کے پاس عمدہ اونٹ ہیں۔ الأسْوار

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والاسوار جمع أَسَاوِر و أساورة: گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنے والا۔ تیرانداز۔ عند الفوس: فوجی افسر۔
۴۔ السُّورنجان: (ن) ایک پودے کا نام پھول سفید یا گلابی موسم خریف و ربیع میں دیکھنے میں آتا ہے۔
○ سَوَّرَ ہ: کے گرد دیوار یا جنگلے یا احاطہ بنانا، باڑ بنانا۔ سَاوَرَہٗ: پر جھپٹنا، چھلانگ لگانا، پر حملہ آور ہونا، حملہ کرنا (جذبات کا) کسی پر واقع ہونا، قابو پانا، کو قابو میں کرنا، مٹھی میں لینا۔ تَسَوَّرَ ہ: (دیوار، کھڑی چٹان وغیرہ) پر چڑھنا۔ سِوار و سُوار جمع سُور و أَسْوِرة و أَساوِرة: بازوبند، کڑا، کنگن، چوڑی، پہنچی۔ سُور جمع أسوار: دیوار، احاطہ، جنگلا۔ سُوْرَة: شدت، جوش، سختی، طاقت (سردی کی) شدت۔
سُوْرِی: شام کا، شامی جمع سوریون: شام کا رہنے والا، شام کا باشندہ۔ سُوْرِیَا: شام۔ سوریا الجنوبیة: فلسطین۔ سوریا الصغریٰ: فلسطین۔ سوریا الکبریٰ: شام (اعظم)
سوریة بمعنی سُوْرِیَا۔
ساس: سَاسَ ۔سِیَاسَةً الدوابَّ: جانوروں کو سدھانا، انکی دیکھ بھال کرنا۔ القومَ: قوم کے معاملات کی تدبیر کرنا، انتظام کرنا۔ و۔ الامرَ: کا انتظام کرنا، بجا لانا۔ صفت سائس جمع سَاسَة و سُوَّاس۔ سُوِّسَ فلانٌ امرَ القوم: فلاں کو قوم کے امور کا مختار و مالک بنایا گیا۔ أَسَاسَ ہٗ النَّاسُ: لوگوں کا کسی کو اپنا سردار، لیڈر بنانا۔ السَاسُ: منتظم۔ السِیَاسَة: (مص) ملکی تدبیر و انتظام۔ ریاست کے کام اور حکومت چلانے کا فن۔ سیاست۔ اسی سے ہے۔ السیاسة الداخلیة و السیاسة الخارجیة: داخلی اور خارجی سیاست۔ السیاسة المدنیة: شہر کا انتظام، اہل شہر کی معاشی حالت کی اصلاح اور عدل و انصاف کا پورا پورا لحاظ۔ السیاسة الاقتصادیة: اقتصادی پالیسی۔ الحقوق السیاسیة: سیاسی حقوق جس سے ہر شہری کو یہ حق ہوتا ہے کہ ملک کے انتظام میں حصہ لے سکے۔ السیاسی: سیاستدان۔
۲۔ سَاسَ یَسَاسُ و سَوِسَ یَسْوَسُ و سِیسَ یُساسُ سَوسًا الطعامُ: کھانے میں گھن لگنا۔ تِ الشاةُ: بکری کا بہت جوؤں والی ہونا۔ سَوَّسَ الطعامُ: کھانے میں گھن لگ جانا۔ أساس الطعامُ: کھانے میں گھن لگ جانا۔ ت الشاةُ: بکری کا بہت جوں والی ہونا صفت مُسِیس تَسَوَّسَ الطعامُ: کھانے میں گھن لگ جانا۔ ۔ت الشاةُ: بکری کا بہت جوں والی ہونا۔ السَاسُ: اصل اسکی سانس ہے۔ کٹا یا کھایا ہوا۔ السُوس واحد سُوسَة (ح) اون یا لکڑی کا کیڑا، گھن، ہر چیز کا کھانے والا۔
۳۔ سَوَّسَ لهٗ أمراً: کے سامنے کسی چیز کی تعریف کے پل باندھنا، اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔
۴۔ السُوس: اصل، طبیعت (کہتے ہیں۔ الفصاحة من سوسه: فصاحت تو اس میں فطری ہے) (ن) ملٹھی کا درخت۔ السَّوَس: جانور کے سرین کی بیماری۔ الأَسْوَسُ من الدوابّ: جانور جسے سرین کی بیماری ہو۔ السُّواس: گھوڑے کی گردن کی ایک بیماری جو گردن کو سکھا دیتی ہے۔
۵۔ السَّوسَن: (ن) سوسن (lily)
۶۔ السُوسیولوجیا: عمرانیات۔
○ سیاسة: ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، پالیسی۔ السیاسة الدُّوَلِیة: ڈپلومیسی۔ السیاسة العملیه: عملی پالیسی Real- politik سیاسة التوسع: توسیع پسندی کی پالیسی۔ سیاسی: سیاسی ڈپلومیٹک جمع سیاسیون و سَاسَة: سیاستدان، ڈپلومیٹ، سٹیٹمین (مدبر) States man الدوائر السیاسیة: سیاسی حلقے۔ السِلك السیاسیّ: ڈپلومیٹک کور۔ علم الاقتصاد السیاسی: پولیٹیکل سائنس۔ سَائِس جمع سَاسَة و سُوَّاس و سُیَّاس: سائیس، منتظم، رہنما، لیڈر۔ السُوَیس: سویز (مصر کی بندرگاہ) قنال السُوَیس: نہر سویز۔ سُوس: (اسم جنس واحد سُوسة) جمع سیسان: گھن، کیڑا۔ سُوس: ملٹھی۔ عرق سوس: ملٹھی کی جڑ۔ رُبّ السُوس: ملٹھی کا عرق یا رس۔
ساط: ۱۔ سَاطَ ۔سَوْطاً الشيءَ: مخلوط کرنا۔ الأمرَ: کو تہ و بالا کرنا، الٹ پلٹ کرنا۔ --- ہٗ: کو کوڑے مارنا۔ سَوَّطَ الأمرَ: کو خلط ملط کرنا۔ ۔ الکُرّاثُ: گندنا کا شاخیں نکالنا۔ اسْتَوَطَ الامرُ: پیچیدہ ہونا، گڈمڈ ہونا۔ السَوط (مص) جمع أَسْوَاط و سِیاط: کوڑا، چابک، نصیب، حصہ، سختی، پانی جمع ہونے کی جگہ۔ کہتے ہیں۔ هما یتعاطیان سوطاً و احداً: وہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں اور ایک ہی ڈھب استعمال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ وعْدُهٗ سوط باطِلٍ: اس کا وعدہ نہ تو قائم رہتا ہے نہ وہ اس پر ٹکتا ہے۔ السِیاط: گندنا کی شاخیں۔ السَوّاط: کوڑے والا سپاہی۔ السَوِیط م سَوِیطة: مخلوط۔ کہتے ہیں۔ اموالهم سَوِیطة بینهم: ان کے مال آپس میں مخلوط ہیں۔ و المِسْواط: وہ گھوڑا جو چابک کے بغیر نہ چلے۔ ۔ والمِسْوَط: وہ لکڑی وغیرہ جس سے [illegible] کو آپس میں گھوٹنا۔ المِسْیَاط: حوض کے پیندے میں بچا ہوا پانی۔
۲۔ سَاطَ ۔سَوطاً الحربَ: جنگ برپا کرنا۔ سَوَّطَ الحربَ: جنگ برپا کرنا، شروع کرنا۔
۳۔ سَاطَ ۔سَوَطَانًاتْ نفسُهٗ: مرجھانا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ سَاطَ اللبنُ ونحوه: دودھ پتلا پانی ہوگیا۔ صفت: سَائِط۔
۵۔ سَوْطَرَ بمعنی سَیْطَرَ:
سَاعَ: ۱۔ سَاعَ ۔سَوْعًا الشيءُ: ضائع ہونا، زائل ہونا۔ تِ الإبلُ: اونٹوں کا بغیر نگرواہے کے آزادی سے چرنا۔ أَسَاعَ اسَاعَةً الشیءَ: کو بیکار چھوڑنا، ضائع کرنا۔ السَائِع جمع سَاعَة: ہلاک ہونے والا۔ رجلٌ مِسیاعٌ و مُسِیعٌ للمال: فضول خرچ مال کو ضائع کرنے والا۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ هو مضیاعٌ مِسْیَاعٌ وهو مُضیعٌ مُسِیعٌ۔
۲۔ سَاوَعَ مُسَاوَعَةً و سِوَاعًا ہٗ: گھنٹے بھر کے لئے کسی سے معاملہ کرنا۔ الرجلُ: ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔ أَسْوَعَ اسْوَاعًا: ایک گھنٹہ موخر ہونا، ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔ السَاعَة جمع سِیاع و سَاعات (تصغیر سُوَیْعَة) گھنٹہ (۶۰ منٹ کا وقت) موجودہ وقت (کہتے ہیں: اقضني حقي الساعةَ: مجھے میرا حق ابھی دو) گھڑی (جس سے وقت معلوم کیا جاتا ہے) (الساعةُ الرملیّةُ: ریت گھڑی۔ الساعة الشمسیة: دھوپ گھڑی) قیامت یا دہ وقت جب قیامت برپا ہوگی۔ السَوْعُ والسُواع: رات کا ایک پہر۔ ساعة سَوعاء: سخت، کٹھن وقت۔ السَوَاعِیة: رومیوں کے نزدیک نماز کے فرائض کی کتاب۔
○ بین ساعة واخری: ایک گھنٹہ سے دوسرے گھنٹہ تک ۔ حتی الساعة: اب تک من الساعة: اب سے آگے، اب سے، آج سے، آج کے بعد۔ من ساعته: فوراً، فی الفور۔ منذ الساعة: اب سے آج کے بعد۔ مات لِسَاعَتِه: وہ فوراً مر گیا۔ ساعة الجَیْبِ: جیب گھڑی۔ ابن مُساعته: عارضی، چند روزہ، ناپائیدار۔ سَاعَتَئِذٍ: اُس وقت، سَاعَاتی: گھڑی ساز۔
ساغ: ۱۔ سَاغَ ۔سَوْغًا و سَوَاغًا و سَوَاغانًا الأمرُ: جائز ہونا۔ صفت۔ سائغ ۔ الشرابُ: آسانی سے گلے سے اترنا۔ صفت۔ سائغ و سَیّغ و أَسْوَغ: کہتے ہیں۔ ساغ لي الشرابُ: مشروب میرے لئے خوشگوار ہوا۔ سَوْغًا و سَاغَ ۔سَیْغًا الشراب: مشروب کو خوشگوار بنانا۔ اساغه: کہنا زیادہ بہتر

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہے۔ سَوَّغ الأمرَ :کوجائز کرنا۔ ۔ لَہ کذا :کوکچھ دینااوراس کے لئے خاص کرنا۔ اُسَاغَ الطعَامَ او الشـرابَ :کھانے یامشروب کوخوشگوار بنانا۔ کہتے ہیں۔ أسِغ لی غُصَّتِی :مجھے مہلت دو۔ اسْتَسَاغ الشـرابَ :مشروب کوخوشگوار بنانا۔ کہتے ہیں۔ السَّیِّغ مِـن الشـراب : خوشگوار مشروب۔ السِوَاغ :حلق کے پھندے کودور کرنے والی شئے۔ کہتے ہیں۔ الماءُ سِواغ الغصص :پانی باآسانی حلق میں چلا جاتا ہے۔

۲۔ سَاغَ ۔سُوْغاً ت به الأرضَ :کازمین میں دھنسنا۔ کودھنسادینا۔

۳۔ أسْوَغَ اسْوَاغًا الصبیُّ اخاہُ :بچے کااپنے بھائی کے ساتھ یااس کے بعد پیدا ہونا۔ چنانچہ سوغُہُ و سَوْغتُہُ و سَیّغُہُ : کامعنی ہے۔اپنے بھائی کے ساتھ یااس کے بعد پیدا ہونے والا اور پیدا ہونے والی۔(مذکرومونث)

○ ساغَ ۔سَوْغًا و مَساغًا :(مشروب یا کھانے کا) آسانی سے اورخوش گوار طور پر نگلا جانا یا گلے سے نیچے اتر جانا۔ لـہ :کے لئے جائز ہونا۔ ۔ ہ : کونگلنا، کی اجازت دینا، کوقبول کرنا۔ برداشت کرنا۔ سَوَّغ ہ ل :کوکے لئے جائز کرنا، کی کواجازت دینا۔ سَوَّغَ ہ: کوقبول کرنا۔ ہ :کا جواز پیش کرنا، کی توجیہ کرنا (ب کے ذریعے، سے) ۔۔ ہ :کوپٹہ پر لینا، دینا، کرائے پر دینا، کرائے پر اٹھانا۔ اَسْوَغَ ہ :کوآسانی سے نگلنا، کی تائید کرنا، کا حامی ہونا، کوبرداشت کرنا۔ استساغ ہ :کوپسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کومناسب سمجھنا۔ مَسَاغ : آسان رسائی، امکان، اجازت۔ لـم یستطع مساغًالہ :وہ اسکوبرداشت نہ کرسکا وہ اس پر راضی نہ ہوسکا، وہ اس پر یقین نہ کرسکا۔ لامسَاغَ للشك :اس میں توکوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ قانون القرض والتسویغ :-Lend Lease Act سَائِغ :مزیدار، لذیذ، خوش ذائقہ، نگلنے میں آسان، جائز۔ مُسَوِّغ جمع مُسَوِّغَات: جواز، توجیہ، جواز یا توجیہ کا عامل، معقول وجہ۔ مُستساغ :نگلنے میں آسان، مزیدار، خوش ذائقہ۔

ساف :۱۔ سَافَ ۔سُوفـاً المـالُ :مال ہلاک ہونا، جانوروں پر مری پڑنا۔ اَسَافَ اسافۃ :کامال ہلاک ہو، کی اولاد مرنا۔ مُسِیف : جس کی اولاد مرگئی ہو۔ مُساف :بیٹا جو مرگیا ہو۔ ۔۔ ہُ اللّٰہُ :کواللہ کاہلاک کرنا۔ السَوَاف والسُواف :جانوروں کی بیماری، مری۔ کہتے ہیں۔ وقع فی المال سَوافٌ :مال میں موت واقع ہوئی۔ اس سے ضرب المثل ہے: أساف حتی مایشتکی السُوافَ :یہ اس شخص کے بارے میں بولتے ہیں جوسختیوں کا خوگر ہوگیا ہو۔ المِسْیَاف :وہ عورت جس کا بچہ مرگیا ہو۔

۲۔ سَافَ ۔سَوْفاً علیه :پرصبر کرنا۔ سَوَّف ہُ :کوٹالنا، باربار کہنا کہ عنقریب کردوں گا۔ ہُ الامـرَ :کوکسی معاملہ میں پورا اختیار دینا۔ سَاوَفَ مُسَاوفۃً ہُ :کو ٹالنا، سے ٹال مٹول کرنا۔ سَوْفَ : مبنی برفتح، مضارع کوزمانہ مستقبل کے لئے خاص کرتا ہے اور حرف "سین" سے اس کازمانہ لمباہوتا ہے۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ یقتات السَـوْفَ :یعنی وہ امیدوں پر جیتا ہے۔ سـوف لایفعل :کہنا غلط ہے۔اس کے بجائے لن یفعل: کہنا چاہئے۔ (وہ نہیں کرے گا) کے معنی میں۔ المُسَوِّف (فا) :صابر، خودمختار۔

۳۔ سَافَ ۔سَوْفـاً الشیءَ :کوسونگھنا۔ سَاوَفَ مُسَاوَفۃً ہُ : کو سونگھنا۔ اسْتَافَ اسْتِیافاً الشیءَ: کوسونگھنا۔ المَسَاف :ناک۔ والمَسَافۃ جمع مَسَاوِف والسِیْفَۃ :دوری کہتے ہیں۔ کم مَسَاف هذه الأرض و مسافتُها و سِیفتُها : یہ زمین کتنی دور ہے؟ بینهم مَساوِف و مَرَاحِل : ان کے درمیان دوریاں ہیں۔ المُستَاف :سونگھنے کی جگہ مسافت طے کرنے والا۔

۴۔ سَاوَفَ مُسَاوَفۃً ہُ :کوبھید سے آگاہ کرنا۔

۵۔ السَاف (ح) :ایک شکاری پرندہ۔ والسافۃ جمع آسُف و سَافَات :گارے یا اینٹوں کا ردا۔ والسُوفَۃ جمع سُوف و سُوَف :ریتلی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔ السَائِفۃ :باریک ریت ریتلی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔

۶۔ السوفیات :مزدوروں، کسانوں اورفوج کے نمائندوں کی مجلس جوروسی انقلاب کے نتیجہ میں قائم ہوئی۔ دولتة السوفیات یا الدولة السوفیاتیة یا روسیا السوفیاتیة :سوویٹ روس یاسوویٹ ریاست۔

○ سَوَّفَ ہُ :کوعذر پیش کرکے ٹال جانا۔ ۔۔ ہ: کو ملتوی کرنا، قلمزن کرنا، میں تاخیر کرنا، کوڈھیل دینا، معرض تعویق میں ڈالنا۔ سَوْف تری :تم دیکھوگے۔ عـلی مَسَافۃ :سے کچھ فاصلہ پر، سے کچھ دور۔ تَسْوِیف :التواء، تعویق، تاخیر، موقوفی۔ تَسْوِیفی: تاخیری، تعویقی۔ سُوفِسْطـائی :مغالطہ آمیز۔ سُوفِیاتی، سوفیتی سُوفِیْتی :سوویٹ (صفت) الاتحاد السوفیاتی :سوویت یونین۔

ساق :۱۔ سَاقَ ۔سَوْقـاً و سِیَاقـاً و سِیاقۃً و مَسَاقاً الماشیةَ :جانور کو پیچھے سے ہانکنا۔(اس کے مقابل قادھا آتا ہے) سائق جمع سَاقۃ و سُوَّاق و سائقون :ہانکنے والا۔ مَسُوقَۃ :جسے پیچھے سے ہانکا جائے۔ ساق السیّارۃ :کارڈرائیو کرنا۔ سَائِق السیَّارۃ :کارڈرائیور کہتے ہیں۔ سـاقـه مَسَاقَ غیرہ :اس کے ساتھ غیر کا سامعاملہ کیا۔ الحدیثَ : بات بیان کرنا۔ الیـه المالَ :کومال بھیجنا۔ کوکے سامنے پیش کرنا۔ مِـن امـراتـهِ :عورت کومہر دینا۔ المـریـضُ نَفسَـهُ عندالموت و سِیق (علی المجهول) :جان کنی شروع ہونا۔ سَوَّق ہُ الأمرَ : کومعاملہ کامختار کرنا، کوکام سپرد کرنا۔ الماشیةَ :جانور کو پیچھے سے ہانکنا۔ سَاوَقَ ہُ :ہانکنے میں کسی کے مقابلہ میں فخر کرنا۔ أسَاقَ اسَاقۃً و اسْتَسَاقَ اسْتِسَاقۃً ہُ الـمـاشیةَ :کوہانکنے کے لئے مویشی دینا۔ تَسَوَّقَ: خرید وفروخت کرنا۔ تَسَاوَقَ تِ الماشِیَۃُ :مویشیوں کا قطار میں چلنا، چلنے میں بھیڑ کرنا۔ اِنْسَـاقَ :ہانکا جانا۔ ۔تِ الابلُ :اونٹوں کا قطار میں چلنا۔ اسْتَـاقَ اِسْتِیَاقًا الماشِیَۃَ :مویشیوں کوہانکنا۔ السَاقَۃ :جلو، فوج کا پچھلا حصہ کہتے ہیں۔ فلانٌ فی ساقةِ الجیش: فلاں فوج کے پچھلے حصہ میں ہے۔اس کا نقیض مقدمہ ہے۔ السُوق جمع أسْواق :بازار۔منڈی۔(مذکرومونث) سُوقُ الحرب :میدان جنگ۔ السُوقَۃ: رعیت، عوام(مذکرومونث اورجمع) السَـوَّاق :ہانکنے والا، ڈرائیور۔ السَیِّق من السحاب :خشک بادل جس کوہوا اڑالائے۔ السَیِّقـة جمع سَیَـائِـق و سَیِّقَات :وہ مویشی جن کودشمن ہانک لے جائے۔ کہتے ہیں۔ المرءُ سَیِّقَۃُ القَدَر :آدمی قضاوقدر کے رحم وکرم پر ہے۔ السِیاق (مص) :عورت کا مہر۔ سِیاق الکلام : اسلوب کلام کہتے ہیں۔ وقعـت هذه العبارة فی سیاق الکلام :یہ عبارت سلسلۂ کلام میں آگئی۔ المِسْوَق :وہ اونٹ جس کی اوٹ میں شکار کو دھوکا دیا جائے۔ المُسْوَاق عند التجار :ایک ایک کرکے اشیاء کا خریدار۔ المُنْسَاق :تابع، نزدیک، لمبی ڈھلوان والا پہاڑ۔

۲۔ سَاقَ ۔سَوْقـاً و سِیَاقاً ہُ :کی پنڈلی پر مارنا۔ سَوِق یَسْوَق سَوَقاً : خوبصورت اور موٹی پنڈلی والا ہونا۔ سَوَّق النبتُ : پودے کا تنہ دار ہونا۔ الساق جمع سُوق و سِیْقَان و أسْوُق (ع ا) پنڈلی (مونث) کہتے ہیں۔ کشف الامـرُ عن ساقِهِ :معاملہ سنگین ہوگیا۔ قامت الحرب علی ساق :جنگ میں تیزی اور شدت آگئی، گھمسان کی جنگ شروع ہوگئی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ولدت المرأةُ ثَلاثةَ بنین علی ساق واحدة : عورت نے یکے بعد دیگرے تین بیٹوں کو جنم دیا جن کے درمیان کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ (ن)، تنہ۔ ساق الشجرة : درخت کا تنہ۔ ۔ البندقیة : رائفل کا مڑے ہوئے دستہ کا نچلا حصہ۔ السَوَق: پنڈلی کی لمبائی۔ السَوْقَاء : لمبابوٹ۔ الأَسْوَق م سَوْقَاء جمع سُوق : لمبی پنڈلی والا۔ السُوَّاق : لمبی پنڈلی والا۔ تنے پر قائم پودا۔

۲۔ساقُ حُرّ : (ح) زقمری۔ السَوِیْق جمع أَسْوِقَة: ستو۔ شراب۔ السَوَّاق: ستو فروش۔ ستو بنانے والا۔

○ ساق۔ سَوْقاً و سِیاقةً و مَسَاقًا ہ / ہ : کو ہانکنا۔ للجُنْدِیَة: فوج میں جبری بھرتی کرنا۔ -- ہ (گاڑی وغیرہ) چلانا، ڈرائیو کرنا۔ (ہوائی جہاز) چلانا۔ ہ کو ساتھ لے جانا، لے جانا، کی نقل و حمل کا انتظام کرنا۔ ہ الِــــی کو کے پاس بھیجنا، کو کے سپرد کرنا۔ ہ : (کچھ) کہنا، بیان کرنا۔ -- ہ: کا حوالہ دینا، کا قول پیش کرنا، سے اقتباس پیش کرنا، کو پیش کرنا۔ ساق مَسَاقَہُ: کے نقش قدم پر چلنا، کی مثال پر عمل کرنا۔ ساق الحدیث : بات جاری رکھنا۔ ساق الحدیث الی: کو مخاطب کرنا۔ الیك یُساق الحدیث : آپ ہی سے مطلب ہے۔ اجازة السَوق : ڈرائیونگ لائسنس۔ سَوقِیة : فن لشکر کشی۔ رَبْطَةُ الساق : گیٹس۔ وقف علی ساق الجدّل : کی طرف اپنی سرگرمی موڑنا، کو تندہی سے کرنا، کی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا۔ علی قدم و ساقٍ : پورے زور شور سے۔ ارسل ساقَہُ للریح : ٹانگیں سر پر رکھ کر بھاگنا۔ السوقُ الحرّة : آزادی منڈی۔ السوق الاسود : بلیک مارکیٹ۔ السوق المُشترك : مشترکہ مارکیٹ۔ سوق النقد: سٹاک ایکسچینج۔ اسواق المحصولات : زرعی پیداوار کی منڈیاں۔ سوق عقود القطن : کاٹن ایکسچینج۔ سُــــوقَة: بھیڑ ہجوم، ارازل، عوام، عوام الناس۔ سِیــاق : اوپر نیچے کی عبارت، سیاق و سباق، سلسلہ بیان، سیاق عبارت (Context) سلسلہ، ترتیب، لڑی (گفتگو کی)۔ مَسَاقُہ الی : مطلب یہ ہوا کہ، گویا کہ۔ مسق من الدراسات : مطالعاتی نصاب افضنی بنا المساقُ الی : ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں۔ تسویق: مارکیٹنگ، تجارتی اشیاء کی فروخت۔ تَسْوِیقــہ: سودا، معاملہ، فائدہ بخش خریداری۔ تساوق: ربط، پیوستگی، باہمی تعلق، تعلق، ہم آہنگی۔ ســائق: ہانکنے والا، ہانکنے والی قوت جمع سائقون و ساقہ : ہانکنے والا (جانوروں کو) ڈرائیور (گاڑی کا) پائلٹ (ہوائی جہاز کا)۔

ساك ۔ سَوكاً و سَوَّكَ الشــیءَ : کو ملنا، رگڑنا۔ اسی سے ہے۔ سَوَّكَ الاسنانَ بالعود: اس نے دانتوں کو لکڑی سے رگڑا، مسواک کی۔ تَسَوَّكَ تَسَوُّکاً و اسْتَاكَ استیاکًا : مسواک کرنا۔ السِوَاك جمع سُوُك والمِسْوَاك: جمع مَساوِیك: مِسواک۔

۲۔سَاكَ ۔ سِواکًاو تَساوَكَ : آہستہ اور کمزور چلنا۔

۳۔سَوْکَرَ الرسالةَ فی اصطلاح العامة: عام لوگوں کی بولی میں، چٹھی کی رجسٹری کرانا۔ ہ: (سامان) کی انشورنس کرانا، بیمہ کرنا یا کروانا۔

○ مُسَوْکَر : بیمہ شدہ، رجسٹری شدہ (چٹھی)

سال : ا۔سَوِلَ یَسْوَل سَوَلاً: پیٹ کا ناف کے نیچے سے ڈھیلا ہونا۔ صفت۔ أَسْوَل م سَوْلاء جمع سُول: نَسَوَلَ البطنُ: پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔

۲۔سَوَّل لَہُ الشیطانُ : شیطان کا کسی کو گمراہ کرنا اور کچھ کرنے پر ورغلانا، پھسلانا، بہکانا کہتے ہیں ھذا من تسویلات الشیطان : یہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے۔ سَوَّلَتْ له نفسُہُ کذا: وہ ایسا کرنے میں بہکاوے میں آ گیا، بہک گیا۔

۳۔سال۔ سُوَالاً و سَوَالا : سَأَلَ کا مخفف اور اُسی کے معنی میں آتا ہے۔ السُوْل: سُؤْل کا مخفف۔ السُولَة: بہت سوال کرنے والا۔

۴۔السَوْلاء : بڑا ڈول۔ السَوِیل: برابر کا۔ کہتے ہیں۔ انا سَوِیلك فی هذا الامر : میں اس معاملہ میں تمہارے برابر کا ہوں۔

○ سَوَّلَ ل ہ: کو کسی بدی یا دور رس نتائج والی بات کے حق میں قائل کرنا۔ تَسَوَّلَ (تَسَأَّل) : بھیک مانگنا۔ تَسَــوُّل: بھیک، مانگنا، سخت افلاس، سخت ناداری۔ مُتَسَوِّل جمع مُتَسَوِّلون: بھیک مانگنے والا، بھکاری، منگتا۔

سام : ا۔سَامَ ۔ سَوْماً و سُوَاماً السِلْعَةَ : سامان کو فروخت کرنے کے لئے پیش کرنا اور اسکی قیمت بتانا۔ المُشتری السِلْعَةَ: خریدار کا سامان یا چیز کا بھاؤ کرنا۔ کہتے ہیں۔ سَامَ بسلعتہِ کذا و کذا : اس نے سامان کی قیمت بتائی اور اس کی بہت زیادہ قیمت طلب کی۔ ـــ ناقتہُ علی الحوض : اونٹنی کو حوض پر لانا۔ ـــ البیضةَ : انڈے کو اپنے دانتوں پر بجا کر اسکی سختی پرکھنا (عام بول چال)۔ سَاوَمَ سِوامًا و مُساومَةً بالسِلعة: سامان کا بھاؤ تاؤ کرنا۔ تَسَاوَمَا السِلعة: سامان کا بھاؤ تاؤ کرنا۔ تساوما السلعة: سودا کرنے [illegible] کا بھاؤ تاؤ کرنا۔ استَامَ فلاناً السِلعةَ : سامان کی قیمت دریافت کرنا۔ -- بھا: سامان کو زیادہ قیمت پر فروخت کرنا۔

۲۔سَامَ ۔ سَوْماً و سُواماً الأمْرَ : کو کسی کام کی تکلیف دینا۔ ہُ خسفاً: کو ذلیل کرنا، خوار کرنا۔ سَوَّم ہُ الأمرَ: کو کسی کام کی تکلیف دینا، اس کے ذمہ لگانا۔ -- ہُ فی ما یملکہ: کو اپنی چیز کا پورا اختیار کر دینا۔ میں ثالث بنانا۔

۳۔سَامَ ۔ سَوْمًا و سُوَاماًت الماشِیةُ : مویشی کا چراگاہ کو جانا۔ الطیرُ علی الشیٔ: پرندہ کا کسی چیز پر منڈلانا۔ -- ت الریحُ: ہوا کا چلتا رہنا۔ سَوَّمَ فلاناً : کو آزادی دیکر اسکی مرضی پر چھوڑنا۔ مثل ہے۔ عبدٌ و سُوِّمَ : آزاد چھوڑا ہوا غلام۔ یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی کمینہ کو پوری آزادی دیدی جائے۔ الخیلَ : گھوڑوں کو بھیجنا، چھوڑنا، چرنے کے لئے چھوڑنا۔ ـ علیھم : پر لوٹ ڈال کر تباہی پھیلانا۔ اَسَامَ اِسَامَةً الماشیَةَ : مویشی کو چراگاہ کی طرف نکالنا۔ الیہ ببصرہ: پر نظر ڈالنا۔ السَائِم (فا): خود سری سے چلنے والا، چرواہا۔ السَائِمَة و السَوَام جمع سَوَائِم : چرنے والے مویشی اور اونٹ۔ السُوَام (ح) ایک پرندہ۔ المَسَام: تیزی سے گزرنا۔ الخیلُ المسَرَّمَة: چرائے ہوئے یا چھوڑے ہوئے گھوڑے۔

۴۔سَوَّمَ الفرسَ : گھوڑے پر داغ لگانا۔ تَسَوَّمَ: نشان لگا ہونا۔ السِیمة و السُوْمَة والسِیمْاء والسِیْمَی: علامت، شکل وہیت کہتے ہیں۔ فیہ سُومَةُ الصلاح و سیمتُہُ: اس میں صلاحیت کی علامت ہے۔ السِیْمِیا والسِیْمِیَاء: علامت۔ خوبصورتی۔ المُسَوَّم : اچھی ساخت کا، نشان زدہ۔

۵۔السَــام واحد سَــامَةَ : موت۔ (ن) بانس، نرکل۔ السامة : موت، سونے یا چاندی کا ٹکڑا۔ جمع سِیَم : کنویں کے اوپر کا گڑھا۔ المَسامة: دہلیز کی لکڑی۔

○ سَامَ ۔ سَوْمًا ہ: (سامان تجارت) فروخت کے لئے پیش کرنا۔ ہُ ہ: پر کوئی سزا عائد کرنا یا کے ذمے کوئی کام لگانا۔ ہ ہ: پر کوئی مشکل کام ڈالنا۔ ہ ہ: سے کوئی ایسا کام کرنے کو کہنا جو اس کے بس کا نہ ہو۔ ہ خَسْفاً : پر ظلم کرنا، کو ذلیل و خوار کرنا۔ سَوَّمَ ہ ہ: پر کوئی مشکل کام ڈالنا، کو کوئی مشکل کام کرنے پر مجبور کرنا، کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہنا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ ہ: کسی چیز کی قیمت متعین کرنا، یا اس کا اندازہ لگانا۔ ہ: کسی چیز پر نشان لگانا، کو کوئی نشان دینا۔ سَاوَمَ ہ : سے سودا کرنا، معاملہ طے کرنا۔ ـــ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ب/ علی/ فی (کی قیمت پر) بول تول کرنا۔ تساوم فی پر سودا کرنا، بول تول کرنا۔ استام علی / فی / ب پر سودا کرنا۔ سومطرة۔ سماترہ اسوان: مصر کا ایک شہر۔ سوھج دریائے نیل پر وسطی مصر کا ایک شہر۔

سوی: ا۔ سَوِیَ یَسْوَی سِوًی الرجُلُ: کا کام درست ہونا۔ سَوَّی الشیءَ: کو ہموار کرنا، برابر کرنا، سیدھا کرنا (مطلقا بنانے اور مرنے کے معنی میں بھی آتا ہے) سوّیتُ المعوّج فما استوی: میں نے ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا چاہا مگر وہ سیدھی نہیں ہوئی۔ بینھما: کو برابر کرنا کہتے ہیں۔ سُوِّیَت علیه الارضُ: وہ ہلاک ہوا اور دفن کردیا گیا۔ ساوَی الشیءَ: کو برابر کرنا۔ کہتے ہیں۔ ھذا لا یساوی درھما: یہ درہم کے برابر نہیں۔ ـ بینھما: کو برابر کرنا۔ ہُ به: کو کے برابر کرنا۔ ـ الرجلُ قرنهُ: کے ہم مثل ہونا۔ قدر قیمت میں ایک جیسا ہونا۔ علم یا بہادری میں کسی کو جا لینا۔ أسْوَی اسْوَاءً: کا کام درست ہونا۔ ـ الشیءَ: کو ہموار و برابر کرنا۔ ـ ہُ به: کو کے برابر کرنا۔ تَسَوَّی: ہموار و برابر ہونا۔ کہتے ہیں۔ تَسَوَّت به الارضُ وہ ہلاک ہوکر زمین میں دفن ہوگیا۔ تَسَاویا فی کذا: میں ہم مثل ہونا۔ اسْتَوَی: درست ہونا۔ الشیءُ: معتدل و مستقیم ہونا۔ کہتے ہیں۔ سَوَّیتُ الشیءَ فاستوی: میں نے اس چیز کو ہموار کیا تو وہ ہموار ہوگئی۔ الرجلُ: کا کام درست ہونا۔ پکی عمر کا ہونا۔ علیه: پر غالب آنا۔ علی ظهر الدابة: جانور کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنا۔ کہتے ہیں۔ استوی علی سریر المُلك: یعنی وہ ملک پر پوری طرح قابض و متصرف ہوا۔ ـ ت به الارضُ: وہ ہلاک ہوکر زمین میں مدفون ہوا۔ ـ الطعامُ: کھانے کا خوب پکنا۔ السَوَاء: برابر، مثل (کہتے ہیں: ھما فی ھذا الامر سَوَاءٌ: وہ دونوں اس معاملہ میں برابر ہیں۔ آپ سواء ان بھی کہہ سکتے ہیں۔ جمع میں ھم سَوَاءٌ یا ھم أسْواءٌ ہیں کے اور خلاف قیاس۔ ھم سَوَاسٍ و سَوَاسِیَه و سَوَاسِوَة: یعنی برابر ہیں۔ کہتے ہیں۔ مررتُ برجل سواءٍ والعدمُ: میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جس کا وجود و عدم وجود برابر ہیں)، درمیان، بیچ کہتے ہیں۔ ضَرَبَ سَوَاءَه: اس نے اس کے وسط میں مارا۔ و لقیتهُ فی سَوَاءِ النھار: میں اس سے وسط دن میں ملا۔ غیر کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے جاؤوا سَوَاءَ زیدٍ: زید کے سوا سب آئے اور مستوی کے معنی میں بھی جیسے مکانٌ سواءٌ و ثوبٌ سواء: طول و عرض میں برابر جگہ یا کپڑا۔ ھذا درھمٌ سَوَاءٌ: یہ پورا درہم ہے۔ سَوَاء السبیل: سیدھا راستہ۔ سَوَاءُ الجبل: پہاڑ کی چوٹی۔ لیلةُ السواء: تیرھویں یا چودھویں رات کیونکہ ان راتوں میں چاند پورا دکھائی دیتا ہے۔ اگر سواء کے بعد ہمزہ تسویہ آئے تو دونوں لفظوں کے ساتھ ام استعمال کرنا ضروری ہے، خواہ لفظ اسم ہوں یا فعل جیسے سواءٌ علیَّ أزیدٌ جاء اُم عمرو: میرے لئے برابر ہے یا یکساں ہے، خواہ زید آیا یا عمرو یعنی ان دونوں میں سے کسی کے آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اور جیسے۔ سواءٌ علیَّ أقُمتَ اُم قعدت: تمہارا کھڑا ہونا یا بیٹھنا میرے لئے یکساں ہے۔ اگر اس کے بعد ھمزۂ تسویہ کے بغیر دو فعل ہوں تو دوسرے کو اَو سے معطوف بنایا جائے گا۔ جیسے سواءٌ علی قمت او قعدتَ: میرے نزدیک تمہارا کھڑا ہونا یا بیٹھنا یکساں ہے اور اگر اس کے بعد مصدر آئیں تو دوسرے کو واو یا او سے معطوف استعمال کیا جائے گا۔ جیسے سواءٌ علی قیامُك و قعودُك و قیامُك او قعودُك: میرے لئے تمہارا کھڑا ہونا اور بیٹھنا یا میرے لئے تمہارا کھڑا ہونا یا بیٹھنا یکساں ہے۔ السِوَی والسُوَی: درمیان وسط سواء کی طرح بمعنی غیر جو استثناء کے لئے آتا ہے جیسے جاؤوا سِوَی زیدٍ: زید کے سوا سب آئے۔ عندی رجل سِواك: میرے پاس تمہاری جگہ تمہارے بدلہ میں ایک آدمی ہے۔ کہتے ہیں۔ مررتُ برجلٍ سَوَاءٍ والعدمُ: میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جس کا وجود یا عدم وجود برابر ہے۔ کہتے ہیں۔ ھما علی حَدٍّ سِوَی: ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ السَوِیّ جمع أسْوِیَاء: برابر، ہموار، برابری، انصاف۔ مکانٌ سَوِیّ: درمیانی جگہ۔ غلامٌ سَوِیّ: بے عیب اچھی ساخت کا لڑکا۔ السَوِیَّة جمع سَوَایَا: سَوِی کا مونث۔ غریب لوگوں کی سواری، برابری، کہتے ہیں۔ ھم علی سَوِیَّةٍ فی ھذا الامر: وہ اس معاملہ میں برابر ہیں۔ قسمتُ الشیءَ بینھما بالسَوِیَّة: میں نے ان دونوں کے درمیان چیز برابر، برابر بانٹ دی۔ السِیّ جمع أسْوَاء: برابر، مانند۔ (ھما سِیَّان: وہ ہر دو ایک جیسے ہیں۔ مونث کے بارے میں کہتے ہیں۔ ما ھی بسِیّ لك ولیست المرأة لك بسِیّ وماھن لك باسواءٍ: وہ عورت تم جیسی نہیں یا وہ عورتیں تم جیسی نہیں)۔ بیابان۔ مکانٌ سِیٌّ: ہموار برابر جگہ۔ لا سِیَّما ولاسِیَمَا: خاص کر۔ اشتٰی کے معنی میں آتا ہے کبھی اس کا لا حذف کردیتے ہیں۔

الأسوی: اسم تفضیل کہتے ہیں۔ ھذا المکان أسوی ھذه الامکنة: یہ جگہ ان سب جگہوں سے زیادہ معتدل ہے۔ الاستواء: استوی کا مصدر: راستی، درستی، اعتدال۔ خط الاستواء عند الجغرافیین: جغرافیا دانوں کی اصطلاح میں کرۂ زمین پر وہ دائرہ عظیمہ جو مشرق سے مغرب کو قطبین سے برابر فاصلہ پر کھینچا ہوا فرض کیا گیا ہے اور جو کرۂ ارض کو دو برابر شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس خط پر تمام سال دن و رات برابر رہتے ہیں۔

۲۔ أسْوَی اسواءً: ذلیل و حقیر ہونا۔

۳۔ اسْتَوَی الی الشیء: کا قصد و ارادہ کرنا۔ السَوَی: قصد، ارادہ۔

⊙ علی حَدٍّ سِوًی: یکساں، برابر، ایک ساوی، ویسا ہی، ملا جلا۔ فضّله علی سِواه: اس نے ہر ایک دوسرے شخص پر اس کو ترجیح دی۔ لیس - سوی، لا - سوی: صرف۔ سواءً بسواءٍ: یکساں طور پر، بلا امتیاز، بلا تمیز، اکٹھے۔ علی السواء: اسی طرح، اس انداز سے، یکساں طور پر، بلا تمیز، بلا امتیاز، پھر بھی، تاہم۔ سَوِیًّا: مشترک، مشترکہ اکٹھے، مشترکہ طور۔ تسویة: تصفیہ (بل کی) ادائیگی، جھگڑوں کا چکانا۔ تحت التسویة: حل طلب۔ واجب الاداء، نادا شدہ۔ بالتساوی۔ علی التساوی: اسی طرح، یکساں طور پر باقاعدگی سے۔ مُسْتَوًی: سطح، معیار۔ مُسْتَوَی الماء: پانی کی سطح۔ المُسْتَوَی العلمی: سائنٹیفک سطح۔ مُسْتَوَی الحیاة: معیار زندگی۔ فی مُسْتَوَی: سے یکساں سطح یا درجہ پر۔ السوید: سویڈن سویدی: سویڈن کا۔ السویس: نہر سویز (بندرگاہ) قناة (قنال) السویس: نہر سویز۔ سویسرا: سوئزرلینڈ۔ سویسری: سوئزرلینڈ کا۔

سِی: سید کا مخفف سیدی، جناب، مسٹر۔

سیام: سیام، تھائی لینڈ۔

سیأ: سَیَّأَت الناقةُ: اونٹنی کا بغیر دوہنے کے دودھ بہانا۔ تَسَیَّأَتِ الناقة: اونٹنی کا بغیر دوہنے دودھ بہانا۔ کہتے ہیں۔ تَسَیَّأَت علیّ الامورُ: معاملات نے اچانک مجھے آلیا اور میری سُدھ گم کردی۔ تَسَیَّأ فلانٌ بحقی: فلاں نے انکار کے بعد میرے حقوق کا اقرار کرلیا۔ انْسَیَأ اللبنُ: دودھ کا دوہنے کے بغیر بہنا۔ السَیء والسِیءُ جمع سُیُوءٌ: خود بخود نکلنے والا دودھ۔

ساب: ا۔ سَابَ ـِ سَیْبًا الماءُ: پانی کا ادھر ادھر بہنا۔ الرجُلُ: تیز تیز چلنا۔ فی کلامه: بے سوچے بولتے چلے جانا۔ ـ ت الدابّةُ: جانور کا آزاد پھرنا۔ سَیَّبَه:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کو چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا۔ ــــ العبدَ: غلام کو آزاد کرنا۔ انسابَ انسیاباً: تیز تیز چلنا۔ ــتِ الحیّةُ: سانپ کا رینگنا۔ السَّیْبُ (مص) جمع سُیُوب: برستی بارش۔ بخشش، مال، زیادتی، زمین کے مدفون خزانے۔
السِّیبُ جمع سُیُوب: پانی بہنے کی جگہ، گزرگاہ۔
السائبُ: جس کی حفاظت نہ کی جائے۔ کہتے ہیں۔ المال السائب یعلّم الناس الحرام: بے حفاظت مال لوگوں کو حرام (یعنی چوری) سکھاتا ہے۔ السائبة جمع سُیَّب و سوائب: چھوڑی ہوئی، نظر انداز کی ہوئی، آزاد کردہ غلام، وہ اونٹنی جو ایام جاہلیت میں نذر کے لئے چھوڑی جاتی تھی یا دس بار دو بچے جننے کے بعد اس کو آزاد چھوڑا جاتا تھا۔ نہ اس پر سواری کرتے نہ اس کا دودھ دوہتے۔ اس کا دودھ اس کا بچہ پیتا یا مہمان کو دودھ پینے کا حق حاصل تھا۔ اسی طرح پینے اور چرنے میں اسے پوری آزادی ہوتی تھی۔ جہاں چاہتی چرتی اور جہاں سے چاہتی پانی پیتی۔ نیز وہ چیز یا مال جس کی حفاظت نہ کی جائے۔
۲- انسابَ فلانٌ نحونا: فلاں کا واپس آجانا۔
۳- السَّیَبُ جمع سُیُوب: گھوڑے کی دم کے بال۔
(ن) سیب (فارسی لفظ) السِّیَابُ و السَّیَّابُ والسُّیَابُ واحد سَیَابةٌ و سَیَّابةٌ (ن): کچی کھجور، گدر کھجور۔ السَّیَابةُ: شراب۔ السِّیبَانُ (ح): اصل میں الصِّیبان ہے۔ پتوؤں اور جوؤں کے انڈے۔
○ انسیابی و انسیابی الشکل: صاف، بے رکاوٹ۔ Stream lined۔
سائب: بیکس، تن تنہا، گم، بھٹکا ہوا، آزاد، ڈھیلا، ڈھیلا ڈھالا، جسے روکا نہ گیا ہو۔
سیبیریا: سائبیریا: Siberia (روس کا علاقہ)
سیج: سَیَّجَ الکَرْمَ: انگور کی بیل کے لئے باڑ لگانا۔ السِّیَاجُ جمع سِیَاجات و أَسْوِجة و سُوج: دیوار، باڑ جو کسی چیز کے اردگرد قائم کی جائے جیسے انگور کی بیلوں اور کھجور کے درختوں سے اردگرد لگائی جاتی ہے۔ السَّیْجانُ (ح): ایک قسم کی مچھلی۔
○ سَیَّجَ ہ: کے گرد باڑ لگانا، جنگلا لگانا۔
سیاج: باڑ، جنگلا، احاطہ، فصیل، شہر پناہ، ہاتی، جمع سیاجات و أسوِجة و أسیاج ساج: ساگوان۔ سیجار: سگار۔ سیجارة جمع سیجارات و سجائر و سجایر: سگرٹ۔
ساح: ۱- ساحَ ـ سَیْحاً و سَیَحاناً الماءُ: پانی کا سطح زمین پر بہنا۔ ماءٌ سائحٌ و سَیْحٌ: زمین کی سطح پر بہنے والا پانی۔ کہتے ہیں۔ هذه الارض نُسقی بالماء تسیحاً: یہ زمین بہتے ہوئے پانی سے سیراب کی جاتی ہے۔ سَیْحاً و سَیَحاناً و سِیَاحةً و سُیُوحاً: عبادت کے لئے زمین میں پھرنا۔ سیر سپاٹے وغیرہ کے لئے ملک میں گھومنا، پھرنا۔ صفت سائح جمع سُیَّاح و سائحون: عام لوگ سُوَّاح کہتے ہیں۔ سَیَّحَ هُ: کو بہانا۔ أساحَ هُ: کو بہانا۔ السَّیْحُ (مص) جمع سُیُوحٌ و أَسْیَاح: بہنے والا پانی۔ السائح: مسجد میں رہنے والا روزہ دار۔ السَّیَّاح: ملکوں میں بہت پھرنے والا۔ سِیَّاح۔ المِسْیَاح جمع مَسَایِیح: شرارت اور چغلی کو پھیلانے والا۔
۲- ساحَ ـ سَیْحاً و سَیَحاناً الظلُّ: سایہ ڈھلنا۔ أساحَ الفرسُ بذنبه: گھوڑے کا دُم کو ڈھیلا کرنا۔ انساح بطنُهُ: پیٹ کا بڑا ہونا اور لٹک جانا۔
۳- سَیَّحَ فلانٌ تسییحاً کثیراً: خوش بیانی سے بولنا۔ السَّیْحُ جمع سُیُوح و أَسْیَاح: دھاری دار کپڑا۔ المُسَیَّحُ من الثیاب: دھاری دار کپڑا۔
۴- انساحَ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ ــتِ الصخرةُ: چٹان کا پھٹنا۔ ــ بالُهُ: کشادہ دل ہونا، فراخ دل ہونا۔
○ ساح ـ سَیْحاً و سَیَحاناً: (برف، دھات کا) پگھلنا، حل ہو جانا، سیال بن جانا۔ سیحاً و سیاحةً: سفر کرنا، گھومنا، پھرنا۔ سَیَّحَ ہ: (دریا وغیرہ) کو جاری کرنا، بہانا (دھات وغیرہ) پگھلانا، حل کرنا، پانی کر دینا، پگھلا کر صاف کرنا۔ ہ: (مکھن) پگھلانا۔ سیاحة جمع سیاحات: سفر، سیاحت۔ سیّاح جمع سیّاحون: مسافر، سیاح۔ سائح جمع سائحون و سُیّاح و سُوّاح: مسافر، سیاح، درویش جو سفر کرتا رہتا ہے۔ مُسَیَّح: سیال، مائع۔ دھاریدار کپڑا۔
ساخ: ساخَ ـ سَیْخاً و سَیَخاناً: مضبوط ہونا۔ ــت قَدَمُهُ فی الطین: کیچڑ میں پاؤں گڑ جانا۔ السِّیاخُ جمع سُیُوخ: مٹی کی عمارت۔ السِّیخُ: بڑی چھری (فارسی)
○ سِیخ جمع أسیاخ: سیخ کباب کی سیخ، کسی دھات کا ورق یا پترہ۔ بچھ کٹاری۔ لوہے کا کانٹا، پیچ، بولٹ۔
سار: ۱- سارَ ـ سَیْراً و تَسْیاراً و مَسِیراً و مَسِیرَةً و سَیْرُورَةً: رات کو جانا۔ ــ وبه: کو لے جانا۔ الدابةَ: جانور پر سوار ہونا۔ الکلامُ او المثلُ فی الناس: کلام یا مثل کا لوگوں میں مشہور ہونا۔ سَیَّرَ الرجلَ: کو جلا وطن کرنا۔ بلدة: کو شہر یا ملک سے نکال دینا۔ ملک بدر کرنا، شہر بدر کرنا۔ الجلَّ عن ظهر الدابة: جانور کی پیٹھ سے جھول اتارنا۔ سایَرَهُ: کے ساتھ چلنا۔ أسارَ الرجلَ: کو چلانا۔ تسایَرَ عن وجهه الغضبُ: غصے کے آثار چہرے سے غائب ہونا۔ تسایَرا: باہم مل کر چلنا، ساتھ ساتھ چلنا۔ استارَ استیاراً: زاد راہ خریدنا۔ السَّیْرُ (مص) زمانہ حاضر کے عرب مؤلفین کہتے ہیں۔ لیس فی عصاه سیرٌ: وہ جو چاہتا ہے کر نہیں سکتا۔ السِّیرةُ جمع سِیَر: سار کا اسم۔ المثل السائر: مشہور مثل۔ السَّیّار و السُّیَرَةُ و السَّیُور: بہت چلنے والا۔ السیّارة جمع سیّارات: سیار کا مونث، قافلہ، موٹر کار، اسے آٹو موبیل بھی کہتے ہیں۔ السیّارات (فلک): سورج کے گرد چکر لگانے والے اجرام سماویہ جو سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ سیارے حسب ذیل ہیں۔ عُطارِد، زُهَرة، زمین، مریخ، مشتری، زُحل اور انوس (جس کا انکشاف ہرزل نے 1871 میں کیا) نیپچون جس کا انکشاف لی فریے نے ۱۸۴۶ء میں کیا) پلاتون جس کا کھوج ۱۹۳۰ء میں لگایا گیا۔ اس کے مقابل میں اجرام سماویہ ثوابت کہلاتے ہیں۔ السیّارات العلیا (فلک): وہ سیارے ہیں جو سورج سے زمین کے مقابلہ میں زیادہ دور ہیں۔ السیارتان السُّفلیان (فلک): عطارد و زہرہ جو زمین کے مقابلہ میں سورج سے قریب تر ہیں۔ التَّسْیار (مص) سیر کا اسم مبالغہ۔ طریقٌ مَسُورٌ (مفع): آمدورفت کی سڑک، چلنے والا راستہ۔ المَسِیرةُ: مسافت۔ کہتے ہیں۔ بینهما مسیرةُ یوم: یعنی دونوں کے درمیان ایک دن (چلنے) کی مسافت ہے۔
۲- سارَ ـ سَیْراً و تَسْیاراً و مَسِیراً و مَسِیرةً و سَیْرُورةً السُّنَّةَ: سنت پر عمل کرنا جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ و أوّل راضی سُنّةٍ من یسیرها: سنت پر سب سے پہلا مطمئن وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ کہتے ہیں۔ سِر عنکَ: مت پرواہ کرو، بے خبر رہو۔ سَیَّرَ سِیرةً: اگلوں کی باتیں کرنا۔ استارَ استیاراً بسیرة فلانٍ: کسی کی سیرت و خصلت پر چلنا۔ سارُ الشیءِ: سب چیز۔ السِّیرةُ جمع سِیَر: ہیئت، طریقہ، عادت، طرز زندگی۔ سیرة الرجل: سوانح عمری، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی کیفیت۔ (کہتے ہیں۔ هو حَسَنُ السیرة: وہ لوگوں میں اچھے سلوک والا ہے۔ اسی سے ہے۔ من طابَتْ سریرتُهُ حُمِدَتْ سیرتُهُ: پاک باطن خوش عادت ہوتا ہے)۔ قصہ، کہانی چنانچہ۔ سیرة عنترة کا معنی ہے عنترہ کا قصہ۔ حد مع...

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مصنفین کی شلوں میں سے المُسَیَّر ہے وہ کہتے ہیں۔ الانسان مُسَیَّر لا مُخَیَّر : یعنی انسان اس دنیا میں اس طرح چلتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اسے چلائے نہ کہ اس طرح جس طرح وہ خود چاہے۔

۳۔ سَیَّر الثوبَ اَوِ السهمَ : کپڑے کو دھاریدار بنانا۔ تَسَیَّر الجلدُ : کھال کا چھل جانا۔ تَسَیَّر الجلدُ : کھال کا چھل جانا۔ السَیْر ج سُیُور و سُیُورۃ و أَسْیَار : تسمہ۔ السِیَرَاء : دھاریدار یا ریشم ملی چادریں۔ المُسَیَّر من الثیاب : دھاریدار کپڑا۔

۴۔ سارُ الشَیء : باقی ماندہ چیز۔ سائِر الشَیء : باقی ماندہ چیز۔ السِیراء : خالص سونا۔ گٹھلی سے چمٹا ہوا چھلکا، دل کا پردہ، کھجور کی ٹہنی۔

۵۔ السِیْرَج : تل کا تیل۔ شِیْرَج بھی کہتے ہیں (فارسی)

○ سارہ: کی راہنمائی کرنا، کو لے جانا۔ سار وراءہ: کے پیچھے چلنا، کا تعاقب کرنا۔ سار جیئۃً و ذھابًا : ٹہلنا۔ سار فی سبیل التحسن : روبہ صحت ہونا۔ الخِطّة التی سار فیھا : وہ راستہ جس پر وہ چلا۔ سار سِیْرَۃً حَسَنَۃً : اس نے اچھا رویہ اختیار کیا، وہ اچھی طرح پیش آیا۔ سار علی قدمیہ : مردہ اور فراموش کردہ نہ ہونا، ابھی کافی زندہ ہونا، ایک محسوس حقیقت ہونا۔ حُسن السَیْر والسلوك : بے داغ زندگی۔ فی السیر وراء غَرَضِہٖ : اپنے مقاصد کے حصول کی جدوجہد میں۔ سَیر جمع سِوَر : تسمہ، پٹی، کمر بند، تنگ، گھیرا۔ سَیْرٌ متحرك : ترسیل پٹی (Assembly line)۔ سِیَرہ جمع سِیَر : طرز عمل، طور طریقہ، چال چلن، سلوک، برتاؤ، رکھ رکھاؤ، وضع، ڈھنگ، رویہ، طرز زندگی، ردعمل (واحد و جمع) سوانح حیات، سیرت، تذکرہ، تاریخ (جمع) مھمین۔ السیرۃ : نبی کریم کی سوانح حیات۔ سیّار : اکثر سفر کرنے والا، ہمیشہ متحرک، مسلسل حرکت میں مسافر، سیاح، ادھر ادھر پھرنے والا، مٹرگشت کرنے والا۔ سیّارہ : سورج کے گرد گھومنے والے اجرام سماویہ میں سے ایک۔ صُحُفُ سَیَّارہ یا جَرائِد سیّارۃ : روزنامے۔ سیّارۃ الاجرۃ : ٹیکسی کیب۔ سیّارۃ مُدَرَّعَة : آرمرڈ کار۔ سیّارۃ دَوْرِیَّة : پٹرول کار، گشتی کار (patrol car)۔ سیّارۃ الاسعاف : ایمبولینس۔ سیّارۃ النقل : ٹرک، لاری۔ سائق السیارۃ : ڈرائیور، شوفر۔ مَسَار جمع مَسَارات (کرنوں یا شعاؤں وغیرہ کا) راستہ۔ مَسِیر : سفر، ٹور، مارچ (عسکری)، روانگی، فاصلہ۔ مَسِیرہ : سفر، ٹور، روانگی، فاصلہ، دوری۔ تسییر : بھیجنا، روانہ کرنا، ریلنے والی توانائی، قوت سائقہ۔ چلانا، ڈرائیو کرنا۔ التسییر النفّاثی : جیٹ پروپلشن۔ مَسَایَرَۃ : تصرف، مطابقت۔ سائر : رواں دواں چلتا ہوا، چلنے والا، پیادہ رو، راہ گیر، راہی، سیلانی، عموماً معروف، مروج، چالو۔ خِدمۃ سایَرۃ : موسمی مزدور۔ مُسَیَّر (ب) : سے ڈائرکٹ یا کنٹرول کیا جانے والا۔ بے تار جیسے (بے تار بم) guided missile ریموٹ کنٹرولڈ Remote controlled (فلسفہ) جسے حریت ارادہ ودیعت نہ کیا گیا ہو۔

سیس: سَیِسَ یَسْیَسُ سَیَسًا الطعامُ : کھانے کو گھن لگنا۔ سَاسَی ہٗ : کو شرم دلانا، عار دلانا۔ السِیْسَاء : ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ کا مقام۔ سیساء الظھر من الدواب : جانوروں کی پیٹھ کا وہ مقام جہاں سوار ہوتے ہیں۔

سیط: سَیْطَرَ سَیْطَرَۃً و تَسَیْطَرَ علیھم : کا نگہبان ہونا، پر مسلط ہونا۔

○ سَیْطَر علی : پر حاکم ہونا، پر دسترس رکھنا، پر اختیار رکھا، تسلط ہونا، کو قابو میں رکھنا، پر حکومت کرنا، تسلط قائم رکھنا، پر غلبہ رکھنا، پر غلبہ پانا، کا ماہر ہونا، کا فرماں روا یا حاکم اعلیٰ ہونا، پر اقتدار حاصل کرنا، پر قبضہ کرنا، کو قبضہ میں لینا۔ سَیْطَرَۃ : حکومت تسلط، اقتدار، برتری، کنٹرول، قابو، فیصلہ کن اثر۔ تحتَ سَیْطَرَۃ : کے زیر کنٹرول۔ مُسَیْطِر : حاکم، فرمانبروا، مطلق العنان حاکیت یا اقتدار اعلیٰ کا حامل۔

ساع : ۱۔ سَاعَ ـِ سَیعاً و سُیُوعًا الشیءُ : ضائع ہونا۔ اَسَاعَ الشیءَ : کو ضائع کرنا۔

۲۔ سَاعَ ـِ سَیعاً و سُیُوعًا و تَسَیَّعَ الماءُ : پانی کا سطح زمین پر ادھر ادھر بہنا۔ انْسَاعَ الماءُ : پانی کا زمین کی سطح پر ادھر ادھر بہنا ــــ الجامِدُ : جمی ہوئی چیز کا پگھلنا۔ السَیع : (مص) سطح زمین پر بہتا ہوا پانی۔ ناقۃٌ مِسْیاعٌ : بچہ کو چھوڑ کر چراگاہ میں جانے والی اونٹنی۔

۳۔ سَیَّعَ الحائطَ بالطین : دیوار کو مٹی سے لیپنا۔ الشیءَ : کسی چیز پر پتلا پتلا تیل وغیرہ ملنا۔ السِیَاع : گارا جو لپائی کے لئے بھوسہ ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔ المِسْیَعَة : لپائی کرنے کی کرنی۔

۴۔ السَیْعاء والسِیَعاء : رات کا ایک پہر کہتے ہیں۔ خرجت بعد سیعاء من اللیل : میں رات کا ایک پہر گزرنے کے بعد نکلا۔

ساغ: ۱۔ سَاغ ـِ سَیغاً الشرابَ : مشروب کو خوشگوار بنانا۔ السَیِّغ من الشراب : خوشگوار مشروب۔

ساف: ۱۔ سَافَ ـِ سَیْفاً ہٗ : کو تلوار سے مارنا، کو تلوار مارنا۔ تَسَیَّفَ ہٗ : کو تلوار مارنا۔ سَایَفُوا و تَسَایَفوا : آپس میں تلوار سے لڑنا۔ اِسْتَافُوا اِسْتِیافاً اُستیفَ القومُ : لڑنا، آپس میں تلوار سے، تلوار سے مارے جانا۔ (لوگوں کا) السَیف جمع أَسیاف و سُیُوف وأَسْیُف و مَسْیَفَة : تلوار، ایک قسم کی سمندری مچھلی جس کی تلوار نما چونچ ہوتی ہے۔ السِیف : تلوار نما چونچ والی مچھلی ایضاً سیف الغُراب : دیکھو۔ دلبوث السَائِف : تلوار والا یا اس سے مارنے والا۔ السَیْفَان م سَیْفَانَة من الرجال : لمبا اور پتلا آدمی، بعض کے نزدیک صرف عورتوں کے لئے یہ وصف مخصوص ہے۔ السَیَّاف جمع سَیَّافة : شمشیرزن۔ رجلٌ سیّافٌ : خون بہانے والا آدمی۔ سیّاف الامیر : جلاد۔ المُسِیْف : تلوار باندھنے والا۔ تلوار سے مسلح، بہادر۔ المُسَیَّف من البرُود : وہ چادریں جن پر تلوار کا نقش یا تلوار کی طرح چوڑی دھاریاں ہوں۔

۲۔ سَافَ ـِ سَیْفاً ت الیدُ : ناخنوں کے اردگرد ہاتھ کا پھٹنا۔

۳۔ السِیْف جمع أَسْیاف : ساحل سمندر، یا ہر ساحل، کھجور کی شاخ کی جڑوں سے چمٹی ہوئی چھال۔ سیفُ الجبّار (فلك) : تین ستارے۔ الأَسْیَاف : (احزاب) آدمیوں کے مسلح گروہ۔ المَسَایِف : خشک سال، قحط کہتے ہیں۔ أصابتھم المسایف : وہ قحط میں مبتلا ہوگئے۔ المَسِیف : فقیر غریب۔ المُسَیَّف من الدراھم : وہ درہم جس کے کناروں پر نقش نہ ہو۔

○ سیف الاسلام : یمن کے شاہی خاندان کے شہزادوں کا لقب۔ مُسَایَفَة : تیغ زنی، شمشیرزنی، پٹے بازی۔

سیك : ۱۔ السِیکاس (ن) : ایک پودا۔

۲۔ السیکاہ : موسیقی کی ایک دھن (فارسی)۔

سال: ۱۔ سَال ـِ سَلاً و سَیَلاناً و مَسِیلا و مَسَالاً الماءُ : پانی کا بہنا۔ سَیَّل تَسْیِیلاً الماءَ : پانی بہانا۔ سَالَ اسَالَةً الماءَ : پانی بہانا ـ الجامِدَ : جمی ہوئی چیز کو پگھلانا۔ تَسَایَلَ القومُ : لوگوں کا ہر طرف سے آنا۔ السَیل : (مص) جمع سُیُول : بہنے والا۔ کہتے ہیں ماءٌ سَیلٌ : بہنے والا پانی۔ السیل : سیلاب۔ السَیْلَة : پانی بہنے کی جگہ۔ سال کا اسم مرۃ۔ السِیْلَة : پانی کا بہاؤ۔ السَیَال واحد سَیَالَة (ن) ایک سفید لمبے کانٹوں والا پودا، اکھاڑنے پر دودھ جیسی چیز نکلتی ہے۔ السَیَّال م سیّالة : زور سے بہنے والا۔ مَسِیل الماء جمع مَسَایل و مُسُل و اَمْسِلَة و مُسلان : پانی بہنے کی جگہ۔ السوائل من المعادن وغیرھا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بہنے والی دھاتیں جیسے پارہ۔

۲۔ سَالَ ـِ سَيلاً و سَيَلاناً و مَسِيلاً و مَسَالاًت غُرَّةُ الـفـرس : گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا لمبا چوڑا ہونا۔ أسَالَ غرارَ النصل :تلوار نیزہ وغیرہ کے پھل کی دھار لمبی کرنا۔ السَائِلة من غُرَر الخيل جمع سوائل :گھوڑے کی ناک تک اسکی پیشانی کی سفیدی۔ السِيْلاَن جمع سَيَالِين :میان میں رہنے والا تلوار کا حصہ۔ المسال من الوجه :داڑھی کا پہلو، جو دو ہوتے ہیں یعنی مُسَالان۔

۳۔ السِيلان جمع سَيَالِين :ایک قیمتی پتھر۔

○ سيكارة جمع سَكَائِر :سگریٹ۔ سِيْكُورْتَاه : انشورنس، بیمہ۔ سيكورتاه الحريق :آگ کا بیمہ۔ سكيورتـه الحياة :زندگی کا بیمہ۔ سَيكُولُوجي: سائیکولوجک / سائیکولوجیکل

○ سَالَ لُعابُه على :پر اسکی رال ٹپکنے لگی۔ سَيل عرام: بڑی تعداد سیلاب، ندی، نالہ۔ بَلَغ السيلُ الزُبى : مسئلہ اپنی انتہا کو جا پہنچا۔ فیصلہ کن مرحلہ پر پہنچا۔ سَيْلَة: دریا، ندی، نالہ۔ علم السوائل :پانی کی طاقت سے چلنے والی قوتوں کا علم۔

سِيلان : سیلون (ملک کا نام)

سيم : السِيمَانية :علم اشارات، جس کے ذریعے مخاطب کے ذہن میں مفہوم بٹھانا ہوتا ہے۔ السِيمُونِيَّة : سیمون نامی جادوگر کی طرف منسوب، مال کے ذریعے روحانی درجوں جیسے اُسقف: کے درجہ تک پہنچنے کی کوشش۔ روحانی یا مقدس اشیاء کی وقتی قیمت پر خرید و فروخت۔

○ سِيَمَى (سِيْمَا) سِيمَاء و سِيْمَة جمع سِيَم : علامت، نشانی، خصوصیت، وضع قطع، چال ڈھال، اظہار۔ سِيْمِيَا و سِيمِيَاء: قدرتی جادو۔

سين: السِينما توغراف :متحرک تصویریں دکھانے کا آلہ، فلم نما (آج کا) پروجیکٹر۔ السِينرامَا :پردہ سیمین پر نظر آنے والی تصاویر کو اپنی طبعی شکل میں دکھانے کا آلہ۔ سینما گھر۔

○ سين : لفظ (س) الاشعة السينية :ایکس ریز۔

سِينا و سيناء: سینائی (sinai)

سينما : سینما، متحرک تصاویر دکھانے کا تھیٹر، سینما گھر۔ دُوْر السينما : سینما گھر (جمع) مووی (جمع) سينما صامت (صامته) : خاموش فلم۔ سينما ناطق (ناطقہ) یا سينما صائت (صائتة) : ساؤنڈ فلم، ٹاکی Talkie رواية سينمائية :فلم، مووی، متحرک فلم۔

سينما سكوب :سینما سکوپ

سينودس :کلیسائی مجلس (Synod)

سِي: سِيَةُ القوس جمع سِيات :کمان کا سرا۔

السِيّ و سِيّما : دیکھو (سوی)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ش

ش: تلفظ شین۔ حروف تہجی کا تیرہواں حرف ہے۔ حروف ابجد میں شین ۳۰۰ کے برابر ہے۔

شاب: الشُؤبُوب جمع شآبیب: بارش کی بوچھاڑ۔ دھوپ کی تیزی وشدت۔ ہر چیز کی حد، ہر چیز کی تندی و تیزی کی شدت، حسن کے نمودار ہونے کا آغاز۔ کہتے ہیں: ھو حَسَنُ شآبیب الوجه: وہ اس کے چہرے کے حسن کا پہلا ظہور ہے۔

شأز: ۱۔ شَئِزَ - شَأَزًا و شَؤْزَةً و شُؤازًا المكانُ: جگہ کا دشوار اونچا اور ناہموار ہونا۔ صفت: شَأْز و شَئِز۔ أَشْأَزَ الرجُلُ عن كذا: سے بلند ہونا۔ خيل شأزة: فربہ گھوڑے۔

۲۔ شَئِزَ - شَأَزًا و شُؤْزَةً و شُؤَازًا و شَئِزَ: بے آرام ہونا، ڈرنا۔ أشأزَهُ: کو بے آرام کرنا، ڈرانا۔ إشتاز: بدکنا، ڈر کر بھاگنا۔ الشأزة: اسم مرہ۔ المَشؤُز و المَشُوز: بیقرار، خوف زدہ۔

○ ش شارع بمعنی گلی کا مخفف ہے۔

○ شاء: اسم جنس واحد شاة جمع شِوَاء۔ و شِیاه: بھیڑ۔ شُؤبُوب جمع شآبیب: موسلا دھار بارش، بوچھاڑ۔ شادِر: خیمہ، گودام، ذخیرہ، بڑی دوکان، مخزن، اسلحہ خانہ۔

شئس: شَئِسَ - شأسًا الشيءُ: سخت ہونا۔ — الرجُلُ: غم یا بیماری سے بےکل ہونا۔ — المكانُ: جگہ کا سخت وپتھریلی ہونا۔ مكانٌ شَئِسٌ و شأْسٌ ج شَئِیس و شُؤُس: سخت اور ناہموار جگہ۔

شأس: شَأْشَأَ شَأْشَأَةً و شَأْشَاءً الراعي الغنم او الحمير و بها: چرواہے کا بکریوں یا گدھوں کو شا شا یا شؤ شؤ کہہ کر ہانکنا۔ — ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا بارآور نہ ہونا، اس میں گابھا نہ لگنا۔ — القومُ: لوگوں کا متفرق ہوجانا۔ — امرُهم: معاملہ واضح ہونا۔ الشَأْشاء (مص): بڑی قسم کی کھجور، کھجور کے لمبے درخت۔

شنف: ۱۔ شَئِفَ - شَأَفَات اصابعُهُ: ناخنوں کے اردگرد انگلیوں کا پھٹ جانا۔

۲۔ شَئِفَ - شَأَفَات الرِجلُ: پاؤں میں آبلہ پڑنا صفت: مَشْؤُوفة۔ شُئِفَتِ الرجلُ: پاؤں میں آبلہ پڑنا۔ اِسْتَشْأَفَتِ القرحةُ: ناسور کا خراب ہو کر جڑ پکڑنا۔ شَأُفُ الجرحِ: زخم کا بگاڑ۔ الشأفَة: جڑ، تلوے کا زخم، کہتے ہیں: استأصل شأفتَهُ: اس نے اسے جڑ سے اکھیڑ دیا۔ یہ بھی کہتے ہیں: بينهم شأفة: یعنی ان کے درمیان دشمنی ہے۔ استأصل اللّٰهُ شأفتَهُم: اللہ تعالیٰ ان کی عداوت اور اذیت کو جڑ سے مٹا ڈالے۔ شافةُ الرجل: آدمی کے اہل و عیال اور مال۔ رجلٌ شأفة: طاقت ور اور نا قابل تسخیر مرد۔

۳۔ شَئِفَ - شَأْفًا شَآفةً فلانًا و لفلانٍ: سے بغض رکھنا، نفرت کرنا۔

۴۔ شُئِفَ: خوف زدہ ہونا، ڈرایا جانا صفت: مَشْؤُوف۔

○ شاكُوش و شَكوش جمع شَواكِيس: ہتھوڑا۔ ابو شاكوش: شارک (مچھلی)۔ شال جمع شِیلان: شال۔ شَالِیه جمع شَالِیات: مچان، ساحلی جھونپڑا، ساحلی کٹیا، سمندری جھونپڑا۔

شأم: ۱۔ شَأَمَ - شَأْمًا القومَ و عليهم: لوگوں پر نحوست ڈالنا صفت: شَائِم۔ شَؤُمَ - شَآمَةً و شُئِمَ عليهم: کیلئے نامبارک ومنحوس ہونا۔ تَشَاءَمَ و اِسْتَشْأَمَ به: سے بدشگونی لینا۔ (تیمّن وتفاءل کی ضد) الشُؤْم: بدشگونی، بدفال نحوست، سیاہ اونٹ۔ الشَائِم (فا): نحوست لانے والا۔ الأَشْأَم م شُؤْمى: اسم تفضیل (اس سے ہے: أشأم كلِّ امرىءٍ بين لحييه: یعنی زبان سب سے زیادہ بدشگون ہے)۔ بدبختی لانے والا۔ المَشْأَمَة: نحوست، بے برکتی۔ المَشْوم و المَشْؤُوم جمع مَشَائِیم: نامبارک نحوست والا۔ عوام میشوم کہتے ہیں۔

۲۔ شَاءَمَ مُشَاءَمَةً به: کو بائیں طرف لینا۔ تَشَاءَمَ و تَشَأَّمَ: بائیں طرف ہونا۔ الشَأْمَة: بے برکتی، نحوست۔ الشُؤْمى: بایاں جانب بایاں ہاتھ۔ الأَشائِم: أشأم کی جمع وہ ضرب الامثال جو لفظ اشأم سے شروع ہوتی ہیں۔ المَشأمة: بایاں پہلو۔

۳۔ شَأَمَهُم: کو ملک شام کی طرف روانہ کرنا۔ شَاءَمَ مُشَاءَمَةً الرجُلُ: ملک شام میں آنا۔ أشأم: ملک شام کا قصد کرنا یا اس میں آنا۔ تشاءَم و تَشَأَّم: شام کی طرف منسوب ہونا، بائیں طرف ہونا۔ الشام و الشأم: ملک شام آج کل اسے سوریا کہتے ہیں۔ الشَامِيّ والشآمي و الشآميّ: ملک شام کی طرف منسوب۔

۴۔ شَأَّمَهُ (فی اصطلاحِ العامة): اپنے نقطہ نگاہ کی وکالت کرنا۔ أَشْأَمَ: اکڑ کر چلنا، سر اٹھا کر چلنا۔ الشِيمة و الشِئمة ج شِيَم: خُلق، فطرت، عادت۔ الشِئْمَة عند العامة: بہادری اور خودداری۔ چنانچہ وہ مثلاً کہتے ہیں: فلانٌ صاحب شِئْمَة او بلا شِئمة: فلاں بہادر اور خوددار یا شجاعت اور خودداری سے عاری ہے۔

○ شامًا و یمناً: شمالاً جنوباً۔ شامي جمع شاميون و شُوام: شامی، ملک شام کا۔ شآمي: شامی (صفت واسم) شُؤْم: مصیبت، آفت، بدبختی، بدقسمتی، بدنصیبی، بدشگونی، شگون۔ لاتَملأ الدنيا شُؤْمًا: دنیا کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بدشگونی سے نہ بھر واس کا کچھ یہ بھی مفہوم لیا جاتا ہے کہ شیطان کا نام ملوث ہو جاتا ہے۔ أَشأم م شؤمَى: نامبارک، بدشگونی والا، غیر معمولی، منحوس، شرانگیز، آفت رساں، مصیبت بھرا، مصیبت انگیز، بدنصیب، بدقسمت، بہت نقصان دہ، سخت مضر، ملعون، لعین، لعنتی، مردود۔ تَشَاءَم: یاس، قنوطیت۔ مُتَشَائِم: قنوطی۔ مَشؤوم و مَشؤم جمع مَشَائِم (دیکھو أشأم) عدد مشؤوم: منحوس نمبر۔

شأن. شَأَنَ – شَأنًا: قدر ومنزلت والا ہونا۔ کہتے ہیں: شَأَن شَأنَكَ: اس نے تمہارے قصد جیسا قصد کیا۔ ماشَأَنَ شَأنَكَ: اس نے تمہارے معاملہ کی کچھ پروا نہیں کی۔ کہتے ہیں: اشأن شأنك: اپنی حالت پر رہو۔ اشتان شأنك: کسی کے ارادہ کی طرح ارادہ کرنا۔ الشأن جمع شؤون و شئان و شنين: بڑے بڑے امور، احوال، معاملہ، حالت۔ کہتے ہیں: مَاشَأنُكَ: تمہارا کیا حال ہے یا تمہارا کیا کام ہے۔ من شَأنِه كذا او ان يفعل كذا: ایسا یا ایسا کرنا اس کی فطرت وطبیعت ہے۔ ج شُؤُون و شُؤُن (ع ا): کھوپڑی کا جوڑ یا درز۔ (کہتے ہیں: بلغت الرائحةُ إلى شُؤُون رأسه: بو اس کی کھوپڑی میں پہنچی)، پہاڑ کی مٹی جس میں کھجور کے درخت اگیں۔ آنسوؤں کی رگ۔ کہتے ہیں: فاضت شؤونه: اس کے آنسوؤں کی رگیں بہہ پڑیں۔ الشُّؤُون: ضروریات۔ کہتے ہیں: كَلِّفنِي شؤونك: اپنے ضروریات میرے سپرد کرو۔ شُؤُونُ الخمر: شراب کا رگوں میں اثر۔

شَأن جمع شُؤُون: معاملہ، تعلق واسطہ، پریشانی، تشویش، کاروبار، حالات، معاملات کی حالت، حالت، طبیعت، فطرت، امتیازی خصوصیت، خوبی، قسم صورت حال، حالت، معنی، مطلب مفہوم، اہمیت، نتیجہ، انجام، حیثیت، مسلمہ حیثیت، وقار، رتبہ۔ جمع شؤون: آنسو۔ شأنَ: جیسے، کی طرح۔ بشأن: کے بارے میں، کے متعلق۔ جلّ شانه: باری تعالیٰ کا جلال بے پایاں ہے۔ وزارة الشؤون الاجتماعيه: امور سماجی کی وزارت۔ الشؤون الخارجية: امور خارجہ۔ ذو الشأن م ذات الشأن: ذمہ دار، نگران، معاملہ سے براہ راست متعلق شخص۔ اولو الشأن و ذوو الشأن: بااثر لوگ، اہل، لائق، قابل، مجاز لوگ۔ وہ لوگ جن کا معاملہ سے تعلق ہو۔ شُؤُونُ الحياة: دنیاوی معاملات۔ خطير الشأن: نہایت اہم۔ ذوشأنٍ: اہم، معنی خیز۔ رفيع الشأن: بلند مرتبہ (والا)، ''بے'' خاندان کے ارکان کا لقب۔ صاحب الشأن: متعلقہ شخص۔ أصحابُ الشأن: متعلقہ اشخاص، اہم اور بااثر لوگ۔ مُكَلَّف بالشؤون: مدار المہام، ناظم الامور charged affaires۔ شأنه في ذلك شأن ال: اس معاملہ میں اس کا حال وہی ہے جو...... کا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ اسی صورت حال میں ہے جس میں وہ ہے۔ رجل هذا شأنه: ایک شخص جس کا حال ہے، ایک شخص جسے ...... کہا جا سکتا ہے۔ ایک شخص اس صورت حال میں شأنك یا أنتَ و شأنَكَ: جو چاہو کرو۔ شأنَكَ و ما تريد: جو دل چاہے کرو۔ دعْنِي و شأنِي: مجھے تنہا چھوڑ دو۔ تركَهُ و شأنَه: اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اسے جانے دیا، کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ هو في شأن: وہ ایک معاملہ میں مصروف ہے۔ هذا شأنُه: یہ اس کا معاملہ ہے۔ ماشأنُكَ: تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ ماشأنك و هذا: تمہارا اس سے کیا واسطہ، تمہارا اس میں کیا کام۔ ماشأنه و الامرُ: اس کا اس معاملہ سے کیا تعلق ہے؟ ماشأني في ذلك؟: بھلا میرا اس سے کیا واسطہ، اس میں میرا کیا کام أيَّ شأن لك في هذا: اس میں تمہارا کیا کام ہے، اس کا تمہارے سے کیا تعلق ہے۔ له شأن في ذلك: اس کا اس بارے میں کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اس کا اس میں ہاتھ ہے۔ لاشأن له في ذلك: اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ ليس لي شأن في ذلك: یہ میرا کام نہیں That is none of my business۔ میں اس میں دخل نہیں دوں گا۔ لاشأن لي به: میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میرا کام نہیں It is none of my business۔ لي معه شأنٌ آخر: مجھے اب بھی اس سے شکایت ہے۔ ذهب لبعض شأنه: اس نے اپنے ایک کام پر توجہ دی۔ وہ کچھ کرنے کے لئے گیا۔ انصرف إلى شأنه: وہ اپنا کام بجالانے کے لئے چلا گیا۔ أصْلَحَت من شأنِها: اس نے بناؤ سنگھار کیا۔ أهمل شأنَه: اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ذلك شأنُه: یہ تو اس کی عادت ہے۔ هذا شأنه دائمًا: وہ ہمیشہ ہی کرتا ہے۔ شأنُه في: جیسا کہ وہ، اس بارے میں کرنے کا عادی تھا۔ شأنه مع من: جیسا کہ وہ ایسے لوگوں سے نمٹنے کا عادی تھا۔ كان من شأنه: اس کی عادت تھی کہ۔ من شأنه أن: اس کی فطرت ہے کہ اس کا طبعی میلان ہے کہ ...... یہ اس کا کام ہے کہ ...... اس کے لئے یہ ...... غیر موزوں ہے، یہ اس طرف مائل نہیں کہ ...... یہ ...... کا باعث نہیں ہوگا۔ انَّ لهذا الرجلِ شأنا: وہاں اس پر نظر رکھنے والا ایک آدمی ہے، یہ اہم آدمی ہے۔ اس شخص کے متعلق کچھ بات ہے۔ لله في خلقه شؤون: اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں عجیب وغریب چیزیں ظاہر ہوسکتی ہیں۔

شانتاج: بلیک میل blackmail۔ (فرنسیسی لفظ)

شأى: شَأَى يَشْؤُو شَأْوًا القومَ: لوگوں سے آگے بڑھنا۔ شَاءَى مشاءاة القومَ: لوگوں سے آگے بڑھنا، سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ تَشَاءَى تَشَائِيًا القومُ: ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، متفرق ہونا۔ —— ما بينهما: ایک دوسرے سے فاصلہ پر ہونا۔ إشْتَأَى إشْتِيَاءً القومَ: لوگوں سے آگے بڑھنا۔ الشَّأْو (مص): مدت، غایت۔ (کہتے ہیں: عدا شأوًا: وہ ایک دوڑ دوڑا۔ فلانٌ بعيدُ الشَّأو: فلاں بلند ہمت ہے۔) اونٹنی کی مہار۔

۲۔ شَأَى يَشْؤُو شَأْوًا التراب من البئر: کنویں سے مٹی نکالنا۔ اشْتَأَى إشْتِئاءً التراب من البئر: کنویں سے مٹی نکالنا۔ الشأو: کنویں سے نکلی ہوئی مٹی، اونٹنی کی مینگنیاں، گوبر کھاد۔ المِشْآة جمع المَشَائِي: کنویں سے نکلی ہوئی مٹی، گوبر، کھاد۔

شَأَى شَأْوًا ہ: کو دوڑ میں جالینا، سے دوڑ میں آگے نکل جانا۔ شَأو: بلند ترین جگہ، چوٹی، منزل مقصود، گول، مقصد، مدعا۔ بعيد الشأو: دور کی تمنا رکھنے والا، دور کی سوچنے والا، بہت اولوالعزم۔ بلغ شأوه في: کسی معاملہ میں دوسرے جتنا دور چلا جانا، سے خوب میل کھانا، ملتا جلتا ہونا۔ بلغ شأوا بعيدًا في الرُّقي: زبردست ترقی کرنا۔ بلغ الشأو البعيد: مقابلہ میں انعام جیتنا، مرکز ہدف پر ضرب لگانا۔

شب: ا۔ شَبَّ – شَبَابًا و شبيبةً الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونا۔ کہتے ہیں: مِن شَبَّ إلى دَبَّ: جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ شُبُ: آپ کہتے ہیں: فعلت ذلك من شُبَّ إلى دُبَّ: میں نے یہ جوانی سے بڑھاپے تک کیا۔ ان دونوں فعلوں میں نائب فاعل مصدر کی ضمیر ہے۔ شَبَّبَ: جوانی اور کھیل کود کے دنوں کا ذکر کرنا۔ أَشَبَّ الغلامُ: لڑکے سے نوجوان ہوجانا۔ الرجُلُ: کی اولاد کا جوان ہوجانا۔ — الثورُ: بیل کا بوڑھا ہونا۔ صفت: مِشِب، مُشِب، شَبَبَ و مِشَب۔ — اللّٰهُ الغلامَ: اللہ کا لڑکے کو جوان کرنا۔ کہتے ہیں: — اللّٰهُ قرنهَ: اللہ اس کی عمر دراز کرے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لا أَشَبَّ اللّٰهُ قرنه: اللہ تعالیٰ اسے جوانی دے نہ عمر میں اضافہ کرے۔ تَشَبَّبَ: جوانی کھیل کود وغیرہ کے دنوں کا ذکر کرنا۔ الشَّبّ ج شَباب و شُبّان و شَبَبَة م شَبَّة جمع شَبّات و شَوَابّ و شَبَائِب: جوان۔ شَبُّ اللیل (ن): ایک پھولدار پودا۔ الشاب جمع شَباب و شُبّان و شَبَبَة م شابّة جمع شابّات و شَوَابّ و شَبَائِب: جوان۔ الشَّبَاب (مص) و الشبیبة (مص) جمع شَبِیبَة شَبَائِب: جوانی سن بلوغ سے تقریباً تیس سال کی عمر تک کا زمانہ، چیز کا اول جیسے شبابُ النهار: دن کا ابتدائی حصہ۔

۲۔ شَبَّ ـ شَبِیبًا و شِبَابًا و شُبُوبًا الفرسُ: گھوڑے کا اڑ جانا یا نشاط میں ہونا، اگلی ٹانگوں کو اٹھانا۔ أَشَبَّ الفرسَ: گھوڑے کو اُکسانا۔ الشَّبُوب: گھوڑا جس کی پچھلی ٹانگیں۔ اگلی ٹانگوں سے آگے ہو جائیں۔

۳۔ شَبَّ ـ شَبًّا و شُبُوبًا النارَ: آگ روشن کرنا۔ ــ ت النارُ: آگ کا روشن ہونا۔ ــــ الشيءُ: کسی چیز کا بلند ہونا اور بڑھنا۔ کہتے ہیں: الجوهرُ یشبُّ بعضه بعضًا: جوہر کا بعض دوسرے بعض کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ اشیاء اپنی اضداد سے ظاہر ہوتی ہیں۔ شُبَّتِ النارُ: آگ روشن ہونا۔ شبّ الشيءُ: کسی چیز کا زیادہ ہونا اور اونچا ہونا۔ شَبَّبَ قصیدتَه و ب: عورتوں کے ذکر سے قصیدہ کو مزین و آراستہ کرنا۔ مدحیہ قصائد کے شروع میں تشبیب کا رواج تھا مگر پھر ہر چیز کی ابتداء کو تشبیب کہنے لگے۔ ــــ الشاعرُ بالفتاةِ: محبوبہ کے بارے میں سرور آفریں نظم کہنا اور اپنا اس سے تعلق و رشتہ کا ذکر کرنا اور اس کی تعریف کرنا۔ تَشَبَّبَتُ النارُ: آگ روشن ہونا۔ تَشَبَّبَ الشاعرُ بالفتاة: بمعنی شَبَّبَ الشاعر بالفتاة۔ الشباب بمعنی تشبیب: کہتے ہیں قصیدة حسنة الشباب: خوبصورت تشبیب والا قصیدہ۔ الشَّبُوب: خوبصورت بنانے والا۔ کہتے ہیں: هذا شَبُوبٌ لکذا: یہ اس کی قوت اور حسن کو بڑھاتا ہے۔ الخمارُ شَبُوبٌ لوجهها: نقاب اس عورت کے چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا ہے۔ ــــ و الشِّباب: وہ چیز جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ ایندھن۔ المَشبُوبُ من الرجال: تیز خاطر شخص۔ نارٌ مَشبُوبة: روشن اور بھڑکتی ہوئی آگ۔

۴۔ شُبَّ لهُ الشيءُ: کیلئے کسی چیز کا اللہ کی طرف سے مقدر کیا جانا۔ أُشِبَّ لهُ کذا: کیلئے مقدر کیا جانا۔

۵۔ شَبَّبَ الکتابَ: کتاب شروع کرنا۔

۶۔ الشَّبّ (ك): پھٹکری سے مشابہ ایک نمک جو کان سے نکالا جاتا ہے۔ الشَّبَّابَة: بانسری۔ المُشِبّ (ح): شیر۔

○ شاوُش جمع شَوَّاس: سارجنٹ، چپڑاسی، دربان، چوکیدار۔ شاوِیش: سٹاف سارجنٹ، وکیل۔ شاویش: (ملٹری کا ایک رتبہ) سارجنٹ۔ شاي: چائے۔

شب: ـ شَبَابًا و شَبِیبَةً: نوجوان یا جوان بن جانا، احمق یا الھڑ جوانی والا ہونا، بڑا ہونا۔ ــ شُبُوبًا: آگ لگنا۔ جنگ شروع ہو جانا۔ شبّت نیرانُ الحرب: لڑائی شروع ہو گئی۔ شبّ عن الطوق: ابتدائی مراحل پر ہونا۔ شَبّ: پھٹکری (alum)۔ شَبّة: پھٹکری۔ تجدید الشباب: اعادۂ شباب۔ مَشبوب: روشن، روشن کیا ہوا، جلایا ہوا، آگ لگایا ہوا، جلتا ہوا، شعلے مارتا ہوا، خوبصورت۔

شبت: الشِّبِتّ یا الشِّبِت (ن): ایک پودا (dill)۔ سوئے کا ساگ۔

شبث: شَبِثَ ـ شَبَثًا بکذا: سے چمٹنا، متعلق ہونا۔ تَشَبَّثَ بکذا: سے چمٹنا، متعلق ہونا۔ الشَّبَث جمع أشباث و شِبْثان (ح): مکڑی، بہت ٹانگوں والا ایک کیڑا، ترن تلا (tarantula)۔ رجلٌ شَبِثٌ: آسانی سے نہ چھوڑنے والا، اپنی بات پوری کئے بغیر نہ چھوڑنے والا، مستقل مزاج۔ رجلٌ شُبُثّة: اپنے ساتھی کے ساتھ ساتھ رہنے والا۔ الشِّبّاث و الشُّبُّوث: شبابیث کا واحد: سنڈاسی۔

○ شبث ـ و تَشَبَّثَ ب: سے چمٹنا، چمٹ جانا، لپٹنا، لگا رہنا، کے ساتھ ساتھ رہنا، کو مضبوطی سے پکڑنا، کو تھامے رکھنا۔ اپنے آپ کو سے منتھی کرنا، منسلک کرنا، کے ساتھ لگا رہنا، سے وابستہ رہنا۔ تَشَبُّث: مضبوطی، استحکام، استقلال، لگاؤ، وابستگی، طرف داری، ہوا خواہی، پیروی، وفاداری، ضد، ہٹ دھرمی، سرکشی، منہ زوری۔ مُتَشَبِّث: وابستہ، طرف دار، ہوا خواہ، ہٹ دھرم، سرکش، منہ زور۔

شبح: ۱۔ شَبَحَ ـ شَبْحًا الجلدَ: کھونٹیوں کے درمیان چمڑے کو تاننا۔ ــ الرجلَ: کو کوڑے مارنے کے لئے اس کے ہاتھ پھیلانا، سولی پر لٹکنے والے کی طرح ہاتھ پھیلانا۔ ــــ الداعيُ: دعا کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ شَبُحَ ـ شَباحَةً: لمبے چوڑے بازوؤں والا ہونا۔ شَبَّحَ الشيءَ: کو چوڑا کرنا۔ تَشَبَّحَ الحِرْبَاءُ على العود: گرگٹ کا لکڑی پر دراز ہونا۔ الشَّبْح و الشَّبَح جمع شُبُوح و أشباح: بلند و بالا دروازہ۔ الشَّبْحَة: گھوڑے کی ٹانگیں باندھنے کی رسی۔ الشَّبْحان: لمبا۔ الشَّبَحان: سامان لیجانے کے دو تختے۔

۲۔ شَبَحَ ـ شَبْحًا الشيءَ: کو پھاڑنا۔ شَبَّحَ الشيءَ: کا چھلکا اتارنا، کو چھیلنا۔ الشَّبْحة: اسم مرة۔ کہتے ہیں: نزع سقف بیتي شَبْحَةً شَبْحَةً: اس نے میرے گھر کی چھت ایک ایک لکڑی کر کے ادھیڑ ڈالی۔

۳۔ شَبَحَ ـ شَبْحًا فلانٌ: سیدھا کھڑا ہونا۔ شَبَحَ: بوڑھا ہو کر کمزوریٔ نظر کے باعث ایک کے دو دیکھنا۔ الشَّبْح و الشَّبَح جمع شُبُوح و أشباح: شخص۔ أشباحُ المالِ: اونٹ بکری وغیرہ جو نظر آئیں۔ نظر آنے والا مال از قسم اونٹ اور بکریاں وغیرہ۔ الصُّوَرُ المُشَبَّحَةُ: سینما گھروں میں پردۂ سیمیں پر دکھائی جانے والی تصویریں۔ الشَّبَحان: سامان لیجانے کے دو تختے۔

○ شَبَح و شَبْح جمع شُبُوح و أشباح: دھندلی غیر واضح شکل، سایہ، بھوت، وہمی صورت، روح، پیکر خیالی، طیف، جن بھوت، کابوس، صورت، شخص، جسم، بدن۔

شبد: الشِّبْدِع و الشُّبْدُع و الشِّبْدِعة جمع شَبادِع (ح): بچھو، مصیبت۔

شبر: ۱۔ شَبَرَ ـ شَبْرًا الثوبَ و نحوه: کپڑے وغیرہ کو بالشت سے ناپنا۔ شَبَّرَ الشيءَ: کا اندازہ کرنا۔ أشبَرَ الرجلُ: دراز قد بیٹوں والا ہونا، کوتاہ قد بیٹوں والا ہونا (ضد)۔ تشابَرَ الفریقانِ في الحربِ: جنگ میں دو فریقوں کا ایک دوسرے کے قریب آ پہنچنا۔ الشِّبْر: قد، عمر۔ الشِّبْر جمع أشبار: عمر، بالشت۔ کہتے ہیں: هو قصیر الشِّبْر: وہ نزدیک قدم رکھنے والا ہے۔ الشِّبْرَة: قامت قد، قد و قامت۔ فلانٌ أشبَرُ منكَ: اس کی بالشت تمہاری بالشت سے بڑی ہے۔

۲۔ شَبَرَ ـ شَبْرًا هُ مالاً: کو مال دینا۔ أشبَرَهُ مالاً: کو مال دینا۔ الشَّبْر (مص): مہر۔ (کہتے ہیں: تزوَّجها و لم یُعطها شَبْرَها: اس نے عورت سے شادی کی مگر اس کا مہر نہیں دیا۔) شادی۔ الشَّبَر: عطیہ۔ خیر، انجیل۔ ذریعۂ تقرب الی اللہ۔ شاعر کا قول ہے: الحمد للہ الذی اعطی الشَّبَر: تعریف اس خدا کی جس نے انجیل یا ذریعہ تقرب الٰہی عطا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فرمایا۔ الشِبْرَۃ: عطیہ۔ المَشابِر واحد مَشْبَر
و مَشْبُرۃ: نشیبی ندیاں جن میں آس پاس کی زمینوں
کا پانی سمٹ آئے۔
۳۔ شَبِرَ ۔ شَبَراً الرجُلُ: اکڑنا، اترانا۔
۴۔ شَبَّرَ فلاناً: کی تعظیم کرنا۔ أَشْبَرَ فلاناً: کو فضیلت
دینا۔ تَشَبَّرَ: بڑا ہونا۔
۵۔ الشَبُّور ج شَبابیر و شَبُّورات: بگل (عبرانی)
الأُشْبُور (ح): ایک قسم کی مچھلی۔
۶۔ شَبْرَقَ ہٗ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چیتھڑے چیتھڑے
کرنا۔ ۔ اللحمَ: گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ۔
البازی الصیدَ: شکرے کا اپنے شکار کو چیر پھاڑ
ڈالنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: شبرق الموسی علی
الجلد: اس نے چمڑے پر استرا تیز کیا، تا کہ اس کی
دھار بیٹھ جائے۔ الشَبارِق و الشُبارِق: ٹکڑے۔
کہتے ہیں: ثوبٌ شَبارِق و شُبارِق و شَباریق و
شِبْرِق: ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا کپڑا۔ الشِبْراق من
کل شیء: ہر شے کی شدت۔ ثوبٌ شِبراق:
ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا کپڑا۔ الشِبْرِقۃ: کپڑے کا
ٹکڑا۔
۷۔ شَبْرَقَتِ الدابۃُ فی مشیِہا: جانور کا چلنے میں
کشادہ کشادہ قدم رکھنا۔
۸۔ الشِبْرِق جمع شَبارِق (ح): بلی کا بچہ۔
○ شَبَرَ ۔ شَبْراً ہٗ: کو بالشت کے ساتھ ناپنا۔ شَبَّرَ
ہٗ: ایضاً۔۔۔ اشاروں سے باتیں کرنا، اشارے کرنا۔
شِبْراً فشِبْراً: انچ انچ کر کے۔ شِبرٌ من الارض:
ایک فٹ زمین۔ قلّدہ شِبراً لِشِبرٍ و ذراعا بذراع:
کی مذہبی طور پر پایچ پچ تقلید کرنا۔ شَبُّور جمع
شَبُّورات و شبابیر: ترم، بگل۔ شِبُّورۃ و
شابُورۃ: کہر، کہرا، سخت دھند، دھند۔
○ شَبْرَقۃ: جیب خرچ pocket money۔ شِبْشِب
جمع شَباشِب: سلیپر slipper۔
شبص: تَشَبَّصَ الشجرُ: درخت کا گنجان ہونا۔
الشَبَص: درخت کے کانٹوں کا ایک دوسرے سے
الجھا ہوا ہونا، خشونت۔
شبط: شُباط: ماہ فروری۔ الشُبُّوط و الشَبُّوط و
الشَبُوط ج شبابیط (ح): چھوٹے سر اور چوڑے
بدن والی ایک قسم کی دریائی مچھلی۔
شبع: ا۔ شَبِعَ ۔ شَبْعًا و شِبَعًا من الطعام: کھانے
سے سیر ہونا۔ کہتے ہیں: شبعتُ من ہذا الامر و
رویتُ: میں اس بات سے اکتا گیا ہوں۔ شَبَّعَتْ
غنمُہٗ: سیر ہونے کے قریب ہونا (کی بکریوں کا)

أَشْبَعَ ہٗ: کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ ۔ الثوبَ من
الصبغ: کپڑے کو اچھی طرح رنگ دینا۔ تَشَبَّعَ:
سیر ہونے کا بہانا کرنا، اظہار کرنا کہ اس نے سیر ہو کر کھا
لیا ہے۔ بہت کھانا۔ الشِبْع و الشِبَع: اس قدر
کھانا جو سیر کر دے۔ الشُباعَۃ: سیری کے بعد بچ
جانے والا کھانا۔ الشُبْعَۃ: کھانے کی مقدار جو ایک
بار سیر کر دے۔ الشَبْعَۃ: شکم سیر (مونث)۔
الشَبْعان م شَبْعَی و شَبْعانۃ ج شِباع و شَباعَی:
شکم سیر۔ کہتے ہیں: ھی شَبْعَی الذراع: وہ بڑے
بازو والی ہے۔ شَبْعَی الخلخال او السوار
او الدرع: فربہ، موٹی۔
۲۔ شَبُعَ ۔ شَباعَۃً عقلُہٗ: بڑا عقلمند اور سنجیدہ ہونا۔
أَشْبَعَ الشیءَ: کو بڑھانا۔ ۔ الکلامَ: مکمل
اور پوری بات کرنا۔ الشَبِیع جمع شُبُع:
بکثرت، کثیر۔ کہتے ہیں: ثوبٌ شَبِیع الغزلِ:
بہت سوت والا کپڑا۔ رجلٌ شبیع العقل: بہت
عقل والا۔ حبلٌ شبیعٌ: کئی لڑیوں والی رسی۔
○ شَبِعَ ہ/من: سے پُر ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ من: سے
اکتا جانا، سے منہ پھر جانا، سے بیزار ہونا، کو کافی حاصل
کر لینا۔ شَبَّعَ ہ ب: کو (بجلی) سے بھرنا، میں
(بجلی) چارج کرنا۔ تَشَبَّعَ ب: میں (بجلی) بھرا ہوا
ہونا۔ اشبع ہ ب: میں (بجلی) بھرنا۔ شَبِعَ ہ
/من: سے پُر ہونا۔ شَبَّعَ ہٗ: خواہشات کی تسکین
کرنا۔ أُشْبِعَ ب: سے پُر ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ أَشْبَعَ
الکلامَ فیہ: کے متعلق تفصیل سے بات کرنا، کو
تفصیل سے بیان کرنا، کی مفصل تشریح کرنا۔ أَشْبَعَہٗ
ضرباً: کی خوب پٹائی کرنا۔ أَشْبَعَ ہٗ: میں پوری
پوری شرکت کرنا، کو پورا پورا اختیار کرنا۔ اِشباع:
سیر کرنا، جی بھر دینا، بھرنا، پُر کرنا، تسکین کرنا، تشفی کرنا۔
مُشَبَّع ب: سے سیر، جی بھرا، سے پُر۔ مُشَبَّع
بالکھرباء: بجلی بھرا ہوا electrically
charged۔
شبق: شَبِقَ ۔ شَبَقًا: بہت شہوت والا ہونا صفت: شَبِق
م شَبِقَۃ۔ ۔ من اللحم: گوشت سے بدہضمی
ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں: شبقہ بالعصا: یعنی اس
نے اسے لاٹھی سے مارا اور لاٹھی کو شابوقۃ کہتے ہیں۔
الشُوبَق جمع شَوابِق: بیلن (فارسی) مشہور
شُوبِک ہے۔
○ شَبِقَ ۔ شَبَقًا: بدکار، تماشبین، عیاش، اوباش اور
شہوت پرست ہونا، بندۂ نفس ہونا۔ شَبَق: شہوت
پرستی، عیاشی، آوارگی۔ شَبِق: بدکار، تماشبین، عیاش،

اوباش، شہوت پرست، بندۂ نفس، آوارہ۔
شبك: ا۔ شَبَكَ ۔ شَبَكَتِ الامورُ: امور کا پیچیدہ
ہونا۔ ۔ الشیءَ: کو ایک دوسرے میں داخل کرنا،
ملانا: آپ کہتے ہیں: شبکتُ اصابعی بعضھا فی
بعض اور شبکت بین اصابعی: میں نے اپنی
انگلیاں ایک دوسری میں داخل کیں۔ شَبَّكَ
الشیءَ: کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، ملانا۔
شابك بین الاصابع: انگلیاں ایک دوسرے میں
داخل کرنا۔ أَشْبَكَ القومُ: نزدیک نزدیک کنویں
کھودنا۔ ۔ المکانُ: جگہ کا قریب کنویں والی ہونا۔
تَشَبَّكَ: مخلط ہونا، پیچیدہ ہونا، الجھا ہوا ہونا۔ ۔۔
الکلامُ و الامورُ: کلام یا امور کا غیر واضح اور مبہم
ہونا، مشکوک ہونا، ذومعنی ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں:
تَشَبَّكَ فلانٌ: وہ سردی سے سکڑا۔ تَشابَكَت
الامورُ: امور کا گڈمڈ اور مبہم ہونا۔ اِشْتَبَكَ: مخلط
ہونا، پیچیدہ ہونا۔ الشَبَکۃ جمع شَبَك و شِباك
و شَبَکات: شکاری کا جال، بہت کنوؤں والی زمین،
کنویں جو ایک دوسرے کے قریب اور بکثرت ہوں۔
الشُبْکۃ: قرابت۔ کہتے ہیں: بینھما شُبکۃ:
یعنی ان کے درمیان قرابت ہے۔ طریقٌ شابِك
جمع شَوابِك: شکی اور پیچیدہ راستہ۔ الشَبّاك:
جال بنانے والا۔ الشُبّاك ج شَبابیك (ب): جالی
دار کھڑکی، کھڑکی، شکاری کا جال، شکاری لوگ،
صراحی، جھجھری، گھڑے یا جگ کا ڈھکن جس میں کئی
سوراخ ہوں۔ الشَبائِك: جھگڑے۔ المُشَبَّك:
ایک قسم کا میٹھا کھانا۔
۲۔ شَبِكَ ۔ شَبْكاً ہٗ عنہ: کو سے غافل کرنا۔
○ شَبَكَ ۔ شَبْكاً ہ: کو باہم دگر جوڑنا، بننا، الجھانا،
پھنسانا، ملانا۔ ۔ ہ ب/ض: کو سے جوڑنا، باندھنا،
نتھی کرنا۔ شَبَّكَ ہ/بین: کو باہم دگر کے ساتھ
جوڑنا، گوندھنا، بل دے کر ایک کرنا، سے الجھانا، مخلوط
کرنا، پیچیدہ کرنا۔ تَشابَكَ: باہم دگر گندھنا، بنا جانا،
الجھنا، پھنسنا، جال کی طرح باہم بنا ہونا، آپس میں پھنسا
ہونا۔ اِشْتَبَكَ: باہمدگر جڑا ہوا ہونا، بنا ہوا ہونا، جال
کی طرح ہونا (شاخوں کا) باہمدگر گندھا ہونا، (ہاتھوں
کا) ایک دوسرے میں پھنسا ہونا، باہم الجھا ہونا یا ہو
جانا، (فی) میں پھنس جانا، پیچیدہ ہونا، الجھنا، لپیٹ میں
آنا، مخلط ہونا، گڈمڈ ہونا۔ ۔۔ (ب/مع): سے گتھم
گتھا ہونا، سے ہاتھا پائی پر اترانا۔ ۔۔ (معاملہ کا)
پیچیدہ ہونا، الجھا ہوا ہونا، گڈمڈ، برہم خلط ملط ہونا۔ ۔۔
ب: کے ساتھ وابستہ ہونا، متحد ہونا، گٹھ جوڑ کرنا، ایک

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پلیٹ فارم پر جمع ہونا، انضمام ہونا، ایک ہونا۔ اشتبك في حديث: گفتگو میں شامل کیا جانا، منہمک کیا جانا۔ اشتبك في حرب: جنگ میں منہمک ہونا۔ شَبَكَة: گرڈ (ریڈیو)۔ شبكة شائكة: خاردار رکاوٹ، کنسر تینہ concertina۔ ایک قسم کا باجہ۔ شبكة لاسلكية: ریڈیو نیٹ ورک۔ شُبَيْكَة: آنکھ کا پردہ retina۔ شُبَّاك جمع شَبَابِيك: نیٹ ورک، گرڈ۔ گرل grid، (grill)، کھڑکی، وکٹ (wicket) (ڈاکخانہ، سینما کے ٹکٹ گھر وغیرہ کی)۔ شُبَّاك العرض: نمائش کی کھڑکی (show window)، شوکیس showcase۔ مِشْبَك جمع مَشَابِك: ہک، کانٹا، آنکڑا، مچھلی پکڑنے کا آلہ، بکسوا، پن، بالوں میں لگانے والی پن، بوبی پن (bobby pin)۔ مِشْبَك الورق: پیپر کلپ (paper clip)۔ عدم الاشتباك في القتال: جنگ میں عدم مداخلت۔ اشتباك: دست بدست جنگ۔

شبل: ۱۔ شَبَلَ ـُ شُبُولًا الغلامُ: لڑکے کا ناز و نعمت میں پلنا صفت شابِل۔ — في بني فلان: فلاں قبیلہ میں پرورش پانا۔ أَشْبَلَ عليه: پر شفقت کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ — ت المرأة على اولادها: عورت کا خاوند کے مرنے کے بعد بچوں کی نگرانی کرنا اور نکاح نہ کرنا۔

۲۔ شَبَلَ — شُبُولًا بالخياطة في اصطلاح العامة: دوردور ٹانکے لگانا، بخیے لگانا (سریانی)۔

۳۔ الشِّبْل جمع أشبال و شِبال و أَشْبُل و شُبُول (ح): شیر کا بچہ جب شکار کرنے کے قابل ہو۔ ابو الاشبال: شیر۔ لبوءة مُشْبِل: بچوں والی شیرنی۔ مكانٌ مشبول: وہ جگہ جہاں بہت سے شیر کے بچے ہوں۔

٭ أشبل على: کی نگرانی یا نگہداشت کرنا، کی دیکھ بھال کرنا۔

شبم: شَبَمَ ـِ شَبْمًا و شَبَمَ الجديَ: بکری کے بچے کے منہ میں تھوتھنی لگانا۔ الشِّبام: وہ لکڑی جو بکری کے بچے کے منہ میں لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ دودھ نہ پی سکے۔ عورتوں کے برقع کی دو ڈوریاں جن کو وہ گدی پر باندھ لیتی ہیں۔ الشِّبَم: بمعنی شِبام یعنی بکری کے بچے کے منہ میں لگائی جانے والی لکڑی۔ المُشَبَّم: تھوتھنی باندھا ہوا بکری کا بچہ، بھوکا۔

۲۔ شَبِمَ ـَ شَبَمًا الماءُ: پانی ٹھنڈا ہونا۔ الشَّبَم: سردی۔ الشَّبِم م شَبِمَة: صبح و شام یا بھوک کے ساتھ صبح و شام، اسلحہ، زہر، موت۔

شبن: ۱۔ شَبَنَ ـُ شَبْنًا الغلامُ: لڑکے کا نازک بدن اور پر گوشت ہونا۔ الشابن من الغلمان: نازک بدن، پر گوشت لڑکا۔ الشَّبَنِي و الأَشْبَنِي و الشَّبَّانِي: سرخ چہرے اور مونچھوں والا۔

۲۔ شَبَنَ ـُ شُبُونًا الشيءُ: چیز کا قریب و نزدیک ہونا۔

۳۔ الشَّبِين و الإِشْبِين جمع أشابين: دولہا کا خدمتگار۔ شَبِينَة و إِشْبِينَة: دلہن کی خدمتگار (سریانی)۔

٭ شَبِين و شِبين جمع شَبَاين: دینی باپ (عیسائی مذہب میں) بہترین آدمی، دولہا کا آدمی (عیسائی مذہب میں)۔ شبينة جمع شبينات: دینی ماں، دلہن کی سہیلی (عیسائی مذہب میں)۔ اشبين جمع اشابين: بمعنی شِبين اِشْبِينَة: بمعنی شَبِينَة۔

شبه: ۱۔ شَبَّهَ إِيَّاهُ و شَبَّهَهُ به: کو سے تشبیہ دینا، کو کے مانند ٹھہرانا۔ شَابَهَهُ و أَشْبَهَهُ: کی مانند ہونا، کے مشابہ ہونا۔ کہتے ہیں: أَشْبَهَ فلانٌ أُمَّهُ: وہ عورت کی طرح عاجز و کمزور ہے۔ ما اشبه الليلة بالبارحة: آنے والا جانے والے کے کتنا مشابہ ہے۔ تَشَبَّهَ به: کی نقل کرنا اور مانند ہونا۔ تَشَابَهَ الرجلان: ایک دوسرے کے مانند ہونا، مشابہ ہونا۔ اِشْتَبَهَا: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ الشُّبْهَة ج أشباه و مَشَابِه: مثل مانند۔ الشَّبَه: مشابہت، پیتل۔ — ج أشباه و مَشَابِه: مثل، مانند۔ الشُّبْهَة جمع شُبَه و شُبُهات: مثل۔ الشُّبْهان و الشِّبْهان: پیتل۔ الشَّبِيه جمع شِبَاه: مثیل، ایک جیسے۔ المُشَبِّهَة: ایک اسلامی فرقہ جو اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے مانند ٹھہراتا ہے۔

۲۔ شَبَّهَ عليه الأمرَ: کسی پر کوئی معاملہ مشتبہ کرنا۔ — الشيءُ: مشکل ہونا۔ شُبِّهَ عليه الأمرُ: پر کوئی معاملہ مشتبہ ہونا۔ تَشَابَهَ الأمرُ: معاملہ کا تشابہ یعنی غیر محکم ہونا (غیر واضح ہونا)۔ اِشْتَبَهَ في الأمر: بات کے صحیح ہونے پر شک کرنا۔ — الأمرُ عليه: پر معاملہ کا غیر واضح ہونا، مخفی ہونا۔ الشُّبْهَة ج شُبَه و شُبُهات: التباس، شک، غیر یقینی، جس میں حق و باطل یا حرام و حلال میں تمیز نہ ہو سکے۔ المُشَبَّه و المُشْتَبِه من الأمور: مشکل یا شکی بات۔ کہتے ہیں: إيّاك و المُشْتَبِهات: یعنی مشکل امور سے خود کو بچاؤ۔

٭ شَبَّهَ ہ ہ / ب: کو کسی دوسری چیز کے برابر یا اس جیسا بنانا۔ — ہ ب: کا کسی اور چیز سے مقابلہ کرنا، کا سے پہلو بہ پہلو رکھ کر مقابلہ کرنا۔ — ہ ب: کو سے تشبیہ دینا۔ شُبِّهَ على: کے لئے مشکوک، مشتبہ، مبہم، غیر یقینی، غیر واضح ہونا، دھندلا سا ہونا۔ شَابَهَ ہ ہ: کا سے مشابہ ہونا، کا سے مشابہت رکھنا، کا کسی چیز جیسا ہونا۔ — ہ، ہ: کا کے مانند ہونا۔ — ہُ: کا کسی چیز جیسا دکھائی دینا، ہو بہو ہونا۔ و ما شابه ذلك و ما أشبه ذلك: وغیرہ وغیرہ۔ تَشَبَّهَ ب: سے اپنا مقابلہ کرنا، سے اپنا موازنہ کرنا، کی تقلید کرنا، نقل کرنا۔ تشابه: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ایک دوسرے جیسا ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا؛ ہو بہو ہونا، بالکل ویسا ہی ہونا، ویسا ہی ہونا، مبہم ہونا، غیر واضح ہونا۔ اِشْتَبَهَ: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ایک دوسرے جیسا ہونا۔ — في: کے بارے میں شک کرنا، پر شک کرنا۔ — في امر او في شخص او شيء: پر شبہ ہونا، کو مشکوک سمجھنا یا مشتبہ سمجھنا۔ — على: پر، کے لئے مشکوک، مشتبہ، مبہم یا غیر واضح ہونا۔ — في الامر: اسے معاملہ مشکوک نظر آیا۔ شِبْه جمع أشباه: مشابہت، یکسانیت، مماثلت، عکس، ہو بہو نقشہ، تصویر، مشابہت، جیسا، نیم، کسی حد تک۔ شِبْهُ جزيرةٍ: جزیرہ نما۔ شِبْهُ حربي: نیم فوجی، نیم عسکری۔ شبه المنحرف: مربع منحرف نما۔ Trapezoid (جومیٹری)۔ شِبْهُ رَسْمي: نیم سرکاری، خواہ مخواہ خدمت پر کمربستہ۔ شِبْه قارة: برصغیر۔ شِبْهُ المُعَيَّن: معین نما شکل۔ أَشْبَاهُهُ: اس جیسے، اس کی قسم کے۔ و شِبْهُهُمْ: ان جیسے، ان کی قسم کے (لوگ)۔ في شبه عُزْلَةٍ تامة: تقریباً، قریب قریب یا بالکل تنہا۔ شُبْهَة جمع شُبُهَات: گمنامی، تاریکی، دھندلا پن، ابہام، غیر یقینیت، شک، شبہ، مغالطہ آمیز استدلال یا بحث، سوفسطائیت، مغالطہ آمیزی، عدالتی غلطی۔ ذو الشبهات یا اصحاب الشبهات: مشتبہ افراد، بدنام لوگ۔ تحت الشُّبْهَة: مشتبہ، مشتبہ شخص۔ شَبِيه ب: کے مماثل، کے مانند، کے مشابہ۔ شبيه بالرسمي: نیم سرکاری، خواہ مخواہ خدمت پر کمربستہ۔ أشبه: زیادہ مماثل، زیادہ مشابہ، زیادہ مانند۔ هو أشْبَهُ ب: وہ اس کا ہم شکل ہے، اس کے مشابہ ہے، ہو بہو وہی ہے۔ مُشَابَه: مشابہات، مماثلات، متعلقہ خصوصیات۔ تشبيه: مقابلہ، موازنہ۔ مثالیہ مجازیہ allegory، تشبیہ simile، تمثیل، مثال parable، تشبیہ (anthropomorphization) (اللہ تعالیٰ سے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

انسانی صفات منسوب کرنا)۔ تَشَبُّہ ب: کی تقلید، نقل۔ مشبوہ: مشکوک، مشتبہ، بدنام، متشابہات: قرآن کے وہ مقامات جو مبہم ہیں اور واضح طور پر قابل فہم نہیں۔ مُشْتَبَہٌ فیہ یا مُشْتَبَہٌ فی امرہ: مشتبہ، مشکوک۔ مُشْتَبَہٌ فیہ ب: کا مشتبہ۔ مُشْتَبَہٌ فی صنعہ: مشکوک بناوٹ کا۔

شبا: ۱۔ شَبَا ـ شَبْوًا الشیءُ: بلند ہونا۔ الفرسُ: گھوڑے کا دو ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ أَشْبَی إِشْبَاءً الشجرُ: درخت کا لمبا اور الجھا ہوا ہونا۔ الشَّبَاۃ جمع شَبًا و شَبَوَات: دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا۔

۲۔ شَبَا ـ شَبْوًا الوجہُ: چہرے کا تغیر کے بعد چمکنا۔ النار: آگ جلانا، روشن کرنا۔

۳۔ أَشْبَی إِشْبَاءً الرجلَ و دینا۔ ۂ: کی اکرام و تعظیم کرنا۔ علیہ: پر مہربان اور شفیق ہونا۔

۴۔ أَشْبَی إِشْبَاءً ۂ: کو مصیبت میں ڈالنا۔ الشیءَ: کو ہٹانا۔ الشَّبْوُ: دکھ، تکلیف۔

۵۔ أَشْبَی إِشْبَاءً الرجلُ: کے ہاں ذہین بچے پیدا ہونا۔ ایسا شخص مُشْبِی و مُشْب کہلاتا ہے۔ الاولاد أباھم: اولاد کا اپنے باپ کے مشابہ ہونا۔

۶۔ الشَّبَاۃ ج شَبًی و شَبَوَات (ح): بچھو پیدا ہونے کے وقت یا زرد رنگ کا بچھو۔ بچھو کا ڈنک۔ ہر چیز کی حد۔ بیوقوف آدمی۔ کہتے ہیں: ھذا رجلٌ شَبَاۃ: یہ آدمی بےوقوف ہے۔ من السَّیف: تلوار کی دھار۔ شَبْوَۃ: بچھو کا علم جنس، غیر منصرف ہے، بوجہ علمیت و تانیث، کبھی اس پر ال بھی آتا ہے۔

○ شَبَی: سرا، نوک، ڈنک، کانٹا، خار۔

شت: شَتَّ ـ شَتًّا و شَتَاتًا و شَتِیتًا: پراگندہ ہونا، متفرق ہونا۔ و شَتَّتَ و أَشَتَّ الاشیاءَ: کو متفرق کرنا، بکھیرنا۔ کہتے ہیں: أَشَتَّ بِی قومی: میری قوم نے میرے کاموں کو پراگندہ کر دیا۔ تَشَتَّتَ و انْشَتَّ و اسْتَشَتَّ الشملُ: بکھرنا، متفرق ہونا۔ الشَّتّ (مص): پراگندگی۔ والشَّتَات ج أَشْتَات: متفرق، پراگندہ، یہ مصدر کے ذریعے صفت ہے۔ کہتے ہیں: جاؤوا أشتاتا و جاؤوا شَتَاتَ شَتَاتَ: وہ متفرق ہو کر آئے، نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے۔ شَتَّانَ: اسم فعل بمعنی بعد (دور ہوا) کہتے ہیں: شَتَّانَ بینھما، و شتان بینھما و ماھما و ما زیدٌ و اخوہُ: ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ الشَّتِیت (مص) جمع شَتّی: متفرق، بکھرا ہوا۔ ثَغْرٌ شَتِیت: فالج زدہ منہ۔

أُناسٌ شَتّی و شُتُوت: مختلف نسلوں کے لوگ۔ أشیاءٌ شتّی: مختلف اشیاء۔ کہتے ہیں: وَقَعُوا فی أمورٍ شتّی: وہ مختلف امور میں تقسیم ہو گئے۔

○ شَتَّ و شَتَّتَ شَمْلَھُمْ: لوگوں کے اجتماع کو منتشر کر دینا، ان کا جلسہ ختم کرنا، ان کے اتحاد کو توڑ دینا۔ شَتّ جمع أشتات: منتشر، جدا (کیا ہوا)، بکھرا ہوا، توڑا ہوا۔ أَشْتَات: کئی گنا، بوقلموں، متنوع، مختلف، طرح طرح کا۔ اشتات من: کے بکھرے ہوئے ٹکڑے، حصے، طبقے، وغیرہ۔ شَتّانَ بینھما: ان دونوں میں کتنا فرق ہے یا وہ کتنے مختلف ہیں۔ شتان ما بینھما و شتان بین ...... و ...... ان کے درمیان کتنا فرق ہے یا وہ کتنے مختلف ہیں۔ تشتیت: منتشر کرنا، بکھیرنا، توڑنا، پھاڑنا، ٹکڑے کرنا۔

شتر: ۱۔ شَتَرَ ـ شَتْرًا الشیءَ: کو کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الرجلَ: کو زخمی کرنا۔ العینَ: پلک الٹنا۔ شَتِرَ ـ شَتَرًا: کٹنا، منقطع ہونا، کا نیچے کا ہونٹ پھٹا ہونا۔ و شَتَرَ: پلٹی ہوئی پلکوں والا ہونا یا نیچے کی پلک کا ڈھیلا ہونا۔ شَتَّرَ عینَہُ: پلک الٹنا۔ إنْشَتَرَتْ عینُہُ: آنکھ کا الٹی ہوئی پلک والا ہونا۔ الشَّتَر (مص): قطع و برید، پلکوں کا الٹاؤ یا پھٹا ہوا ہونا۔ الشُّتْرَۃ: دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔ الأشتر م شتراء جمع شُتْر: پلٹی ہوئی یا پھٹی ہوئی پلک والا، نیچے کی ڈھیلی پلک والا۔ نیچے کے پھٹے ہوئے ہونٹ والا۔

۲۔ شَتَرَ ـ شَتْرًا بہ: کو گالی دینا۔ شَتَّرَ بہ: کی مذمت کرنا، عیب گوئی کرنا، کو گالی دینا، پر نکتہ چینی کرنا، کو بری باتیں سنانا۔ الشَّتْر: عیب، نقص۔ الشِّتِّیر: بڑا عیب دار اور شرپسند، بد خلق۔

○ شِتْرات: ترنجی، ترش کا نمک۔

شتع: شَتِعَ ـ شَتَعًا: بیماری یا بھوک سے گھبرا اٹھنا۔

شتغ: شَتَغَ ـ شَتْغًا ۂ: کو روندنا، ذلیل کرنا۔ أَشْتَغَ ۂ: کو تلف کرنا۔ المَشَاتِغ: ہلاکتیں۔

شتل: شَتَلَ ـ شَتْلًا و شَتَّلَ الشَّتْلَ: پنیری اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا یا گاڑنا (سریانی)۔ الشَّتْلَۃ: شتل کا واحد: پنیری۔ المَشْتَل: پنیری اگانے کی جگہ۔ المَشْتُول: ڈھیلے ڈھالے بے ترتیب لباس والا (عام لوگوں کی زبان میں)۔

شتم: ۱۔ شَتَمَ ـ شَتْمًا و مَشْتَمَۃً و مَشْتِمَۃً و مَشْتُمَۃً و تَشْتَامًا ۂ: کو گالی دینا۔ شَتَّمَ ۂ: کو گالی دینے میں غالب ہونا۔ شتّمہ ۂ: کو بہت گالیاں دینا۔ شَاتَمَ ۂ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تَشَتَّمَ: گالی کا مستحق ہونا۔ تَشَاتَمَ القومُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ الشَّتِیمَۃ جمع شَتَائِم: گالی۔ الشَّتَّام و الشَّتَّامَۃ: بد خلق۔ الشَّتَّام و الشَّتَّامَۃ: گالیاں دینے کا عادی، بہت دشنام دینے والا۔

۲۔ شَتُمَ ـ شَتَامَۃ: بدشکل ہونا۔ صفت: شَتِیم۔ الشَّتَامَۃ (مص): بدصورتی کے ساتھ بدخلقی۔ الشُّتَام و الشُّتَامَۃ: بدشکل۔ الشتامۃ: غضبناک شیر۔

○ شَتَمَ ـ شَتْمًا و شاتمۂ: کو گالی دینا، سے سخت کلامی کرنا، سے دشنام طرازی کرنا، کو بدنام کرتے پھرنا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا۔ تشاتم: ایک دوسرے کو بدنام کرتے پھرنا، گالی دینا، ایک دوسرے پر لعنتیں کرنا۔ شتّام: گستاخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، بدتمیز، بےہودہ، بدلگام، غیر مہذب، غیر مہذبانہ۔ شتیم: جس کو گالی دی گئی ہو، بدنام کیا گیا ہو، جس کی توہین کی گئی ہو۔

شتا: شتا ـ شَتْوًا بالبلد: شہر میں موسم سرما گزارنا۔ المکانَ: میں سردی کے موسم کے دوران ٹھہرنا۔ الشتاءُ: سردی پڑنا۔ و شَتِیَ و أَشْتَی القومُ: موسم سرما میں داخل ہونا، سردی کے موسم میں خشک سالی کی مصیبت جھیلنا۔ کہتے ہیں: ھذا شیءٌ یُشْتِینی: یہ چیز، میرے لئے موسم سرما میں کافی ہے۔ شَتّی تشتیۃً بالبلد: کسی شہر میں سردی کا موسم گزارنا۔ ۂ: کا کسی کے لئے موسم سرما میں کافی ہونا۔ ت الدنیا فی استعمال العامۃ: بارش ہونا۔ شَاتَی مُشَاتَاۃً و شِتَاءً الرجلَ: سے موسم سرما پر یا موسم سرما کے لئے معاملہ کرنا۔

○ شتا ـ شتوا ب: کسی جگہ موسم سرما گزارنا یا کسی جگہ سردیاں کاٹنا، ــ: جاڑے میں سوتے رہنا۔ شتی: بارش ہونا۔ تَشَتّی ب: کسی جگہ موسم سرما گزارنا، سردیاں کاٹنا، سردیوں میں سوتے رہنا۔ شِتَاء جمع أشْتِیَۃ و شُتِیّ: سردی کا موسم، سردیاں، موسم سرما، سرما، بارشیں، بارشوں کا موسم۔ شَتَوِی: سردی کا، سردی کے موسم کا، سردیوں کا۔ مَشْتًی جمع مَشَاتٍ: سردیوں کی رہائشگاہ، سردیاں گزارنے کا مقام، سردیوں کی تفریح گاہ۔ مُشْتًی بمعنی مَشْتًی۔ مشاتٍ: سردی کا، موسم سردی کا۔ تَشَتّی تَشَتِّیًا بالبلد: کسی شہر میں موسم سرما گزارنا۔ المکانَ: کسی جگہ موسم سرما میں ٹھہرنا۔ الشِّتَاء جمع أشتیۃ و شُتِیّ: سردی کا موسم ۲۱ دسمبر سے ۳۱ مارچ تک۔ نسبت کے لئے شَتَوِی و شِتَوِی۔ والشتا: قحط۔ فاکھۃ الشتاء: آگ۔ الشَّتَاۃ و الشَّتْوَۃ: موسم سرما۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

صاحب الشَّتْوَة: وہ شخص جس کے پاس سردی کے موسم میں پناہ ملے۔ الشِّتِيُّ: موسم سرما کی بارش۔ الشَّاتِي: موسم سرما کا۔ يـوم شـاتٍ و غـداة شـاتِيـه: سردی کا دن، سردی کی صبح۔ الشَّتَوِی: موسم سرما کی بارش۔ المَشْتَى و المَشْتَاة جمع المَشَاتِي: سردی کا زمانہ، یا جگہ، سرما کے ایام گزارنے کی جگہ۔ هـذه مَشَاتِيـنا و مَصَايِفنا و مَرَابِعُنا: یہ ہماری سردی گرمی اور بہار گزارنے کی جگہیں ہیں۔

شت: الشَّتّ جمع شِتَات واحد شَتَّة (ن): جنگلی اخروٹ۔ (ح): شہد کی کھیاں، پہاڑ کی چوٹی کا کنگرہ، ہر چیز کی بہت زیادہ تعداد۔

شتر: شَتِرَ - شَتَرًا عينهُ: آنکھ موٹی ہونا۔ الشُّتْر ج شُتُور: پہاڑ کا کنارہ۔ قناةٌ شَتِرة: پھٹا ہوا نیزہ۔

شتل: شَتِلَ - شَتَلاً و شَتِلَ - شُتُولَةً ت اصابعُهُ: انگلیوں کا کھردری اور موٹی ہونا۔ شَثْلُ الاصـابـع: موٹی اور کھردری انگلیوں والا۔ قَـدَمٌ شَثْلَة: موٹے گوشت والا پاؤں۔

شثن: شَثِنَ: بمعنی شَثِل۔

شجّ: ا۔ شَجَّ - شَجًّا الرأسَ: سر زخمی کرنا، توڑنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ يَشُجّ مرّةً و يأسو مرةً: فلاں کبھی غلطی کرتا ہے کبھی صحیح۔ ـ المفازةَ: بیابان طے کرنا۔ ـ الشراب بالماء: شراب میں پانی ملانا۔ ـ المـركبُ البحرَ: جہاز کا سمندر کو چیرنا۔ کہتے ہیں: شجَّ الارضَ بـراحـلـتـه: سواری کو بہت تیز چلانا۔ ـ - شَجَجًا: زخمی سر والا یا زخم کے نشان والا ہونا۔ صفت: أشَجّ و شَجِيج جمع شَجَّى و مَشْجُوج و مُشَجَّج۔ شَجَّجَ ہ: سر کو بہت زخمی کرنا۔ شَاجَّ مُشَاجَّةً و شِجَاجًا و تَشَاجَّ القومُ: ایک دوسرے کے سر کو زخمی کرنا۔ الشَّجَج (مص): پیشانی میں زخم کا نشان۔ الشَّجَّاج: ہوا۔ الشَّجَّاج: خصوصاً سر کو بہت زخمی کرنے والا۔ الشَّجَّة ج شِجَاج: سر کا زخم۔ الشَّجِيج و المُشَجَّج: کھونٹی۔

۲۔ شَجَّجَ على الأمر: کا پختہ ارادہ کرنا۔

○ شَجَّ ہ: کچھ خصوصاً کھوپڑی کو توڑنا، پھاڑنا، دو ٹکڑے کرنا، (ہڈی) توڑنا، پاش پاش کرنا۔ شَجَّة جمع شِجَاج: سر کا زخم، کھوپڑی کا ٹوٹنا (Skull fracture)۔

شجب: ا۔ شَجَبَ - شَجْبًا ہُ: کو کھینچ کر مشغول کرنا۔ (کہتے ہیں: إنك لتشجبني عن حاجتي: تم تو میری توجہ میرے کام سے ہٹاتے

ہو)، کو غمگین کرنا۔ ـ شَجْبًا الغرابُ: کوے کا جدائی کی خبر دینا۔ ـ شَجَبًا و شُجُوبًا و شجِب - شَجَبًا: غمگین ہونا۔ صفت: شَجِب و شَاجِب۔ أشْجَبَهُ: کو غمگین کرنا۔ تَشَجَّبَ: غمگین ہونا۔ الشَّجْب (مص) ج شُجُوب و أشْجاب: حاجت، غم واندوہ، رنج و تکلیف جو بیماری یا قتال کی وجہ سے لاحق ہو۔ الشَّاجِبُ من الغِربان: بہت کائیں کائیں کرنے والا کوا۔

۲۔ شَجَبَ - شَجْبًا ہُ: کو ہلاک کرنا۔ ـ شَجْبًا و شُجُوبًا و شَجِبَ - شَجَبًا: ہلاک ہونا، مرجانا۔ ـ الشيءُ: جاتا رہنا۔

۳۔ شَجَبَ - شَجْبًا القنينةَ بِشِجاب: بوتل کو ڈاٹ سے بند کرنا۔ تَشَاجَبَ الشيءُ: چیز کا مل جل جانا، مخلوط ہونا۔ الشَّجْب (مص) ج شُجُوبٌ و أشْجاب: گھر کا ستون۔ الشَّاجِب: بہت بکواس کرنے والا۔ الشِّجاب جمع شُجُب: بوتل وغیرہ بند کرنے کا ڈاٹ، کارک ڈھکنا۔ ـ و الشُّجُب و المِشْجَب (مِشْجَب کی جمع مشاجب): کھونٹی، کپڑے ٹانگنے کی کھونٹی، لکڑی کا سٹینڈ جس پر کپڑے رکھے اور پھیلائے جاتے ہیں۔ الشَّجْباء: مشک۔

○ شَجَبَ - شَجْبًا و شَجَّبَ ہُ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا، پر ہلاکت کا حکم سنانا۔ ـ ہ: کی مذمت کرنا، پر سخت تنقید کرنا۔ أشْجَبَ ہ: کو ایذا دینا، تکلیف میں ڈالنا، دکھ دینا، رنجیدہ کرنا، دکھ پہنچانا۔ شَجْب: تباہی، بربادی، شکست فاش، صفوں میں بھگدڑ مچانا (دشمن)، پیس ڈالنا، کچل ڈالنا۔ شِجَاب جمع شُجُب: دیوار میں لگی کپڑے ٹانگنے کی ہک (کھونٹی)۔ مِشْجَب جمع مَشَاجِب: کپڑے ٹانگنے کی دیوار گیر ہک یا کھونٹی، کپڑوں کی ریک clothes rack

شجر ا۔ شَجَرَ - شَجْرًا الشجرةَ: درخت کے کچھ حصہ کو پکڑنا۔ شَجِرَ - شَجَرًا الرجُلُ: بہت جمعیت والا ہونا۔ شَجَّر النباتُ: پودے کا درخت بننا۔ ـ المكانَ: کسی جگہ درخت لگانا۔ شَاجَر شِجَارًا و مُشَاجَرةً ت الماشيةُ: گھاس اور سبزی کے نہ ہونے سے مویشیوں کا درختوں کے پتوں پر گزارہ کرنا۔ ـ الماشيةَ: مویشیوں کو درختوں کے پتے چرانا۔ أشْجَرَ المكانُ: کسی جگہ کا درخت اُگانا۔ الشَّجَر جمع أشْجَار و شَجْراء واحد شَجَرة جمع شَجَرات: درخت۔ شَجَرةُ النَّسَب: آباء واجداد کا نسب نامہ۔ ـ الزنبق: پرچم

پودا (iris)، سوسن کا درخت (lily)۔ شجرة الحياة: خیر وشر معلوم کرنے کا درخت جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو منع کیا تھا۔ کہتے ہیں: فلانٌ شجرةُ خير: فلاں سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں یعنی وہ منبع خیر ہے۔ الشجرة الملعونة: تھور کا درخت۔ الشجرة: اسم مرۃ۔ مكانٌ شَجِرٌ و شَجِير و أشْجَر م شَجِرة و شَجِيرة و شجراء: بہت درختوں والی زمین۔ الشجراء: گنجان درخت، گنجان درختوں والی زمین اس کا مقابل مَرْدَاء ہے یعنی وہ زمین جو درختوں سے خالی ہو۔ کہتے ہیں: قطعتُ كل شجراء و مرداء: میں نے ہر زمین طے کی وہ بھی جو گنجان درختوں والی تھی اور وہ بھی جہاں کوئی درخت نہ تھا۔ الشَّجَّار جمع شَجَّارون: درختوں کا ماہر۔ المَشْجَر ج مَشَاجِر: درخت کی جگہ۔ مكانٌ مُشْجِر م مُشْجِرة: بہت درختوں والی جگہ۔ ثوبٌ مُشَجَّر: بوٹے دار کپڑا، کپڑا جس پر درختوں کی شکلیں ہوں۔ اہل چین کی تحریر کو بھی مُشَجَّر کہتے ہیں۔ شج المَطَّاط: ربڑ کا درخت۔ شج الخبز: نشاستہ دار پھلوں والا درخت۔

۲۔ شَجَرَ - شَجْرًا و شُجُورًا بينهم امرٌ: کوئی امر لوگوں میں زیر بحث ہونا، مختلف فیہ ہونا، متنازعہ ہونا۔ کہتے ہیں: شَجَرَ ما بينهم: وہ آپس میں جھگڑ پڑے۔ ـ شَجْرًا الرجُلَ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ شَاجَر شِجَارًا و مُشَاجَرةً ہُ: سے جھگڑنا۔ تَشَاجَر القومُ: لوگوں کا آپس میں جھگڑنا، آپس میں گتھنا۔ تَشَاجَرُوا بالرماح: وہ آپس میں نیزوں سے لڑے۔ إشْتَجَرَ القومُ: قوم کا آپس میں جھگڑا کرنا۔ الشَّجْر (مص) جمع أشْجار و شُجُور و شِجار: اختلافی بات۔ رِماحٌ شَوَاجِر: مختلف ضربوں والے نیزے۔

۳۔ شَجَرَ - شَجْرًا الشيءَ: کو باندھنا، جوڑنا، مربوط کرنا۔ ـ البيتَ: گھر کے ستون لگانا۔ ـ النباتَ: پودے کی جھکی ہوئی ٹہنیوں کو اونچا کرنا۔ شَجَّرَ النخلَ: ٹوٹنے کے خوف سے کھجور کے خوشہ کو ٹہنی پر رکھنا۔ تَشَاجَر الشيءُ: کے بعض کا بعض میں مل جانا۔ إشْتَجَر الرجُلُ: ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہنی کا سہارا لینا۔ الشَّجْر ج أشجار و شُجُور و شِجار: ٹھوڑی یا دونوں جبڑوں کے درمیان کا حصہ۔ الشَّجْرة: چاہ زنخداں۔ الشِّجار: ہودہ کی لکڑی، چھوٹی پالکی جو اوپر سے کھلی ہو۔ الشِّجار بمعنی شِجَار۔ ـ ج شُجُر: دروازہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کے پیچھے لگانے کی لکڑی، کنویں کی لکڑی۔ المِشْجَر ج مَشَاجِر: ہودہ کی لکڑی، چھوٹی پالکی جو اوپر سے کھلی ہو۔ المِشْجَر ج مَشَاجِر: بمعنی مَشْجَر: کپڑوں کا ریک۔

۴۔ شَجَرَ ـ شَجْراً فلاناً: کو منع کرنا، روکنا۔ کہتے ہیں: ماشَجَرَكَ عن كذا: یعنی تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے سے روکا۔ إشْتَجَرَ نومُهُ: نیند کا دور ہونا۔ إنْشَجَرَ نومُهُ: نیند کا دور ہونا۔ الشَوَاجِر: مشاغل و موانع۔ الشَجِير: اجنبی اونٹ یا آدمی۔

۵۔ شَجَرَ ـ شَجْراً فَمَهُ: کا لکڑی سے منہ کھولنا۔۔ الدابةَ: جانور کو ٹھہرانے کیلئے لگام کو زور سے مارنا کہ وہ منہ کھول دے۔ الشَجْر جمع أشْجَار و شُجُور و شِجَار: منہ کا وہ حصہ جو بند کرتے وقت ظاہر ہو۔ الحروف الشَجْرِية: ش، ض اور ج یا ش، ج، ق، ک اور ی۔ الشِجَار جمع شُجُر: وہ لکڑی جو بکری کے بچہ کے منہ میں لگائی جاتی ہے تا کہ وہ دودھ نہ پی سکے۔

۶۔ إشْتَجَرَ الرجُلُ: آگے بڑھنا، جلد خلاصی پانا۔ إنشجر: جلد خلاصی پانا، نجات پانا۔

۷۔ الشِجَار ج شُجُر: اونٹ کا داغ۔ الشَجِير: تلوار، برا ساتھی۔

○ شَجَرَ ـ شَجْراً: ہونا، واقع ہونا، وقوع میں آنا، رو پذیر ہونا، (عام بے چینی، گڑبڑ) کا اچانک پھیلنا، بڑھنا۔ شاجَرَ ہ/مع: کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، بحث کرنا۔ تَشَاجَرَ: ایک دوسرے سے جھگڑنا، لڑنا، بحث کرنا۔۔ مع: سے جھگڑنا، بحث کرنا لڑنا۔ شَجَر: اسم جنس واحد شجرة جمع اشجار: درخت، چھوٹی جھاڑیاں، جھاڑیاں۔ شَجَرة جمع شَجَرَات: درخت، چھوٹی جھاڑی، جھاڑی۔ شَجِر: لکڑی کا، درختوں سے بھرا ہوا، جنگل پوش، جنگل والا، بنوں والا۔ شَجِير جمع شُجَراء: برا ساتھی، برا ساتھ۔ شُجَيْرة جمع شُجَيرات: چھوٹی جھاڑی، جھاڑی۔ شِجار: چوبی پلی چٹخنی، کھٹکا۔ اشْجَر م شَجْراء: لکڑی کا، درختوں سے بھرا ہوا، جنگل پوش۔ تَشْجِير: شجرکاری، جنگل بنانا، بن بنانا (afforestation)۔ شِجار: لڑائی، جھگڑا، بحث مباحثہ۔ مُشَاجَرہ: لڑائی، جھگڑا، بحث۔ مُشَجَّر: پودوں کی شکلوں والا اور شاخ دار (کپڑا)۔ مُشْجِر: جنگل پوش، بہت درختوں والا۔

شجع: ا۔ شَجُعَ ـ شَجَاعَةً: بہادر شجاع نڈر ہونا۔ ۔ شَجَعَاهُ: پر بہادری میں غالب ہونا۔ شَجَّعَ ہُ: کو قوی دل بنانا۔۔ ہُ علی الأمر: کو پر جرأت دلانا۔ شَاجَعَ ہُ: سے دلیری میں مقابلہ کرنا۔ تَشَجَّعَ: بہادر بننا، بہادری کا اظہار کرنا۔ الشُجَاع و الشَجَاع و الشِجَاع جمع شُجْعان و شِجْعَان و شِجَاع و شُجَعَاء و شُجْعَة و شِجْعَة و شَجَعَة: دلیر، بہادر، جرأت والا، بڑے دل گردہ والا۔ الأشْجَع م شَجْعَاء جمع شُجْع: اسم تفضیل: (سے) زیادہ بہادر، سب سے زیادہ بہادر، بہادر ترین، بہادر، شیر، پیش پیش رہنے والا اونٹ۔ الشَجِع: بہادر۔ الشَجِيع ج شُجْعَان و شِجَاع و شُجَعَاء و أشْجِعَة م شجيعَة ج شَجَائِع و شِجَاع و شُجُع: بہادر، دلیر، نڈر۔ الشَجَاعَة (مص): جرأت، دلیری، منچلا پن خوف کے وقت دل کی مضبوطی۔

۲۔ شَجِعَ ـ شَجَعًا: لمبا ہونا۔ صفت: أشْجَع م شَجْعَاء۔ رجُلٌ شَجْعَةٌ و شُجْعَة: لمبا، بے ڈول آدمی۔ الأشْجَع: لمبا۔ الشَجِع: پاگل اونٹ۔ جملٌ شجعُ القوائم: جلد جلد قدم اٹھانے والا اونٹ۔

۳۔ الشُجُع (ز): درخت کی جڑیں۔ رجُلٌ شُجْعَةٌ و شُجُعَة: عاجز، بزدل۔ الشُجَاع و الشِجَاع جمع شُجْعان و شِجْعَان و أشْجِعَة (ح): ایک قسم کا سانپ، الأشْجَع: ایک قسم کا سانپ، زمانہ۔۔ و الإشْجَع (ع ا): الاشاجع کا واحد، انگلیوں کی جڑ یا ہتھیلی کی پشت کی رگ۔ المُشَجَّع: بہت ہی پاگل۔

○ شَجُعَ ـ شَجَاعَةً: باہمت، دلاور، جرأت مند، بہادر، نڈر، بے خوف، منچلا، جواں مرد، شجاع ہونا۔ شَجَّعَ ہُ علی: کو کی جرأت دلانا، کی ہمت بڑھانا، کا جی بڑھانا (کچھ کرنے پر) کی ہمت افزائی کرنا (کچھ کرنے پر)۔۔ ہ۔ ہ: کی مدد کرنا، تائید کرنا، پشت پناہی کرنا، کو ترقی دینا، کے لئے کام کرنا، کو تقویت پہنچانا، بڑھانا، فروغ دینا۔ تَشَجَّعَ: کمر ہمت باندھنا، ڈر دور کرنا، اپنے آپ کو نڈر ظاہر کرنا، جرأت مند ہونا۔ شُجَاع: ہیرو۔ شجاعة: جسارت۔ اشجع: نڈر۔ مُشَجِّع: ہمت بڑھانے والا، (کے لئے) کام کرنے والا، تقویت پہنچانے والا، حامی، مددگار، مؤید۔

شجم: الشَجَم: ہلاکت۔ الشُجُم: ہلاکتیں، مصائب۔ لمبی اور بڑی مصیبتیں۔

شجن: [illegible]

غمگین ہونا صفت: شَاجِن۔ شَجَنَ ـ شَجْنًا و شُجُونًا ہُ: کو غمگین کرنا۔ شُجُونَات الحمامةُ: فاختہ کا دردبھری آواز نکالنا۔ شَجَّنَ ہُ: کو غمگین کرنا۔ أشْجَنَ ہُ: کو غمگین کرنا۔ تَشَجَّنَ: غمگین ہونا۔۔ الأمرَ: معاملہ کو یاد کرنا۔ الشَجَن (مص) ج شُجُون و أشْجَان: غم، اندوہ، خواہش نفس۔

۲۔ أشْجَنَ الكرمُ: انگور کی بیل کا الجھا ہوا اور گنجان ہونا۔ تَشَجَّنَ الشَجَرُ: درخت کا گنجان اور گھنا ہونا۔ الشَجْن جمع شُجُون و الشَاجِنَة ج شَوَاجِن: وادی کا راستہ یا اس کا بالائی حصہ۔ الشَجَن ج شُجُون و أشْجَان و الشَجْنَة و الشِجْنَة و الشُجْنَة ج شِجَن و شُجَن و شِجِنَات و شُجُنَات و شُجَنَات: الجھی ہوئی پیچیدہ ٹہنی ہر چیز کی شاخ۔ کہتے ہیں: الحديثُ ذو شُجُون: بات میں بات نکلتی ہے۔

۳۔ تَشَجَّنَ: حرکت کرنا۔

۴۔ الشِجْنَة ج شِجَن و شُجَن و شِجْنَات و شُجُنَات و شُجَنَات: پہاڑ کی دراڑ، شگاف۔

شجا: ا۔ شَجَا ـ شَجْوًا و أشْجَى إشْجَاءً الرجُلَ: کو غمگین کرنا، خوش کرنا (ضد) اکسانا، کا گلا گھونٹنا (ضد)۔ شَجِيَ ـ شَجًا: غمگین ہونا۔۔۔ بالشجا: حلق میں ہڈی اٹک جانے سے گلا گھٹنا۔ عَلَيكَ بالكظم و إن شَجِيتَ بالعظم: ضبط و تحمل سے کام لے اگرچہ تیرے حلق میں وہ ہڈی اٹک گئی ہو۔ تَشَاجَى: غم کا اظہار کرنا۔ الشجا: غم، رنج اندوہ: حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی وغیرہ، گلے کی پھانس۔ الشَجْو (مص): غم، رنج، گریہ وزاری کا ایک دور کہتے ہیں: بكى فلان شَجْوه و بكت الحمامةُ شَجْوَها: فلاں کچھ دیر رویا، فاختہ نے کچھ دیر دردبھری آواز نکالی۔ مفازةٌ شجواء: دشوار گزار بیابان۔ الشَجِي و الشَجِيّ م شَجِيَة و شَجِيَّة: غمگین، فکرمند نسبت شَجَوِيّ: ضرب المثل ہے: ويل للشجي من الخلي و يا ويل الشجي من الخلي: یہ اس وقت کہتے ہیں جب آدمی کا ساتھی برا ہو۔ جسے کوئی غم نہ ہو وہ غمگین شخص کی مصیبت میں کوئی مدد نہیں کرتا بلکہ اسے ملامت کرتا ہے۔

۲۔ شَجِيَ ـ شَجًا الغريمُ عنه: سے قرض خواہ کا چلا جانا۔ أشْجَى الغريمَ او السائلَ: قرضخواہ یا سائل کو حسب منشا دے دینا۔ الشَجْو: حاجت، ضرورت۔ کہتے ہیں له عندي شَجْوٌ: اسے مجھ سے ضرورت

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شجا: تأثر، احساس، جذبہ، رقت انگیزی، دلگداز کیفیت۔ شَجِي: غمگین، رنجیدہ، پریشان، افسردہ، مغموم، مصیبت میں مبتلا، تشویش مند، خوفناک، ڈراؤنا، دل ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، رقت انگیز۔ مُشَجٍّ: جذبات ابھارنے والا، رقت انگیز، دل گداز، دردناک۔

شحّ: ۱- شَحَّ ـُ شَحًّا و شِحًّا و شُحًّا بالشيء و علی الشيء: میں بخل کرنا، کا لالچ کرنا، کی حرص کرنا۔ عوام کہتے ہیں: شحّ ماءُ الینبوع أو ماء النهر: چشمے یا دریا کا پانی کم ہو گیا اور موسم خزاں میں پانی کی کمی کے دنوں کو ایام الشحائح کہتے ہیں۔ شاحّ بالشيء علی فلان: کسی سے کسی چیز پر بخل کرنا۔ تشاحّ القومُ علی الأمر و فیه: کسی چیز کے بارے میں آپس میں بخل کرنا۔ الشحّ (مص): بخیل۔ الشَحَاح: کنجوس، حریص، لالچی۔ ـــ من الأرض: وہ زمین جو بغیر زیادہ بارش کے پانی نہ بہائے۔ زَنْدٌ شَحَاحٌ: آگ نہ دینے والی چقماق۔ ماءٌ شَحَاح: تھوڑا پانی۔ الشحیح ج شِحَاح و أَشِحَّة و أشحّاء م شَحِیحَة ج شَحَائح: کنجوس، بخیل، حریص، لالچی۔ إبلٌ شَحَائح: کم دودھ والی اونٹنیاں۔

۲- شاحّ مشاحّةً ہٗ: سے جھگڑا کرنا، سے سختی کرنا۔ کہتے ہیں: لا مَشَاحَّةَ في الأمر: یعنی یہ صاف اور کھلا معاملہ ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ تشاحّ الخصمان في الجدل: دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کا غالب ہونے کا ارادہ کرنا۔ ـــ علی الشيء: ہر ایک کا کوئی چیز حاصل کرنے کی خواہش کرنا۔

۳- شَحْشَحَ البعیرُ: اونٹ کا آواز کو پھرانا۔ ـــ الصُرَدُ: ممولے کا آواز نکالنا۔ ـــ الطائرُ: پرندہ کا جلدی سے اڑ جانا۔ ـــ منه: سے ڈرنا۔ الشَحْشَح: وسیع بیابان، بہادر آدمی، غیرت مند، خوش بیان، لیکچرار۔ ـــ و الشَحْشَاح: بخیل، بے خیر، بدخلق، کوئی کام ہمیشہ کرنے والا۔ الشَحْشَحَان: بخیل، غیرت مند، لمبا۔ المُشَحْشَح و المُشَحْشِح: بے خیر شخص، بے فیض آدمی۔

شَحَّ ـِ: کنجوس، بخیل، لالچی، حریص، طامع ہونا یا ہو جانا۔ ـــ ب/علی: میں کنجوسی کرنا، کو کم خرچ کرنا، میں کفایت سے کام لینا۔ (علی): کے بارے میں۔ ـ ب علی: کا لالچی، حریص ہونا۔ ـ: کم پڑ جانا، کم ہو جانا، سمٹنا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا۔ شاحّ ب علی: سے بچھوڑ لینا، روک رکھنا۔ الایام الشحائح: وہ دن جن میں بارش نہ ہو، خشک موسم۔ لا مَشَاحَّةَ في ذلك: یہ ناقابل تردید ہے۔ لا مَشَاحَّةَ أن: یہ بات ناقابل تردید ہے کہ...، یقیناً، حتمی طور پر۔

شحب: شَحَبَ ـَ و شَحُبَ ـُ و شُحِبَ شُحُوبَةً و شُحُوبًا لونُهُ: بھوک یا بیماری وغیرہ سے چہرہ کا رنگ بدلنا۔ الشاحب (فا): لاغر و دبلا یا متغیر رنگ والا۔ شاحبُ اللون: متغیر رنگ والا۔ شاحبُ الجسم: لاغر اور دبلے جسم والا۔

شَحَبَ ـُ شُحُوبًا و شَحُبَ ـُ شُحُوبَةً و شُحِبَ: پیلا، زرد، کمزور، نقیہ، دبلا، لاغر، بے چربی والا، اترے ہوئے منہ والا ہونا یا ہو جانا، بیمار دکھائی دینا، کمزور سا، بیماروں سا نظر آنا۔ شُحُوب: پیلا پن، چہرے کی زردی، چہرے کی بے رونقی، لاغری، دبلا پن۔ شاحِب: پیلا، زرد، کمزور، نقیہ، دبلا، بیمار، کمزور سا، اترے ہوئے چہرے والا، بے رونق، مدہم (روشنی)، پھیکا، ہلکا، صوفیانہ، زرد (رنگ)۔

شحث: شَحَثَ ـَ شَحْثًا المُدْيَةَ: چھری تیز کرنا۔

شَحَتَ (= شحذ): بھیک مانگنا۔ تَحَّات: بھکاری۔ شحات العین: گوہانجنی (sty)۔

شحج: شَحَجَ ـِ شَحِيجًا و شُحَاجًا و شَحَجَانًا و تَشْحَاجًا و تَشَحَّجَ البغلُ او الغرابُ: خچر کا ہنہنانا، کوے کا کائیں کائیں کرنا یا اس کی آواز کا بھاری ہونا۔ شُحَاج و شَحِيجُ البغل او الغراب: خچر کی ہنہناہٹ، کوے کی کائیں کائیں۔ الشَحَّاج و الشاحِج (ح): جنگلی گدھا۔ بنات شَحَّاج و بنات شاحِج: خچریں۔ الشَواحِج (ح): کوے۔ المِشْحَج: جنگلی گدھا، گورخر۔

شحذ: ۱- شَحَذَ ـَ شَحْذًا السكّينَ و نحوه: چھری وغیرہ تیز کرنا۔ شَحُوذ و شَحِيذ: تیز کی ہوئی چھری وغیرہ۔ ـــ الجوعُ معدتَهُ: سخت بھوک لگنا۔ ـــ ہٗ ببصره: کو گھورنا۔ ـــ الشيءَ: کو چھیلنا۔ ـــ في التسول: مانگنے میں بہت اصرار کرنا۔ کہتے ہیں: هو يشحذ الناسَ: وہ لوگوں سے لیچڑپن سے مانگتا ہے۔ ـــ الدابّةَ: جانور کو سختی سے ہانکنا۔ ـــ ہٗ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ شاحَذَہٗ: سے تلوار وغیرہ تیز کرنے میں مقابلہ کرنا، سے مراسلت کرنا۔ أَشْحَذَ السكّينَ: چھری تیز کرنا۔ تَشَحَّذَہٗ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ ـــ الرجلُ: مانگنے میں لیچڑپن اختیار کرنا۔ الشَحَّاذ ج شَحَّاذة و شَحَّاذون: بھکاری، گداگر، سوالی۔ الشِحَاذة: گداگری کا پیشہ۔ الشُحْذان و الشَحَذان: بھوکا، ہانکنے والا، ہلکا چلنے والا۔ رجلٌ شُحُذوذٌ: تیز اور غصہ کے وقت طیش میں آنے والا۔ المِشْحَذ: چھری چاقو تیز کرنے کی سان، تیز ہانکنے والا۔ المِشحاذ ج مَشاحِيذ: ٹیلہ، پہاڑ کی چوٹی۔ المَشْحَذة: تیز کرنے کا نوکدار ذریعہ۔ کہتے ہیں: هذا الكلام مَشْحَذَةٌ للفهم: یہ کلام فہم کو تیز کرنے والا ہے۔

۲- الشَحَّاذ (طب): گوہانجنی۔

شحر: ۱- شَحَرَ ـَ شَحْرًا: منہ کھولنا۔

۲- الشَحْر (مص): پانی بہنے کی جگہ، وادی کا درمیان۔ ـــ و الشِحْر: کنارہ، ساحل۔ شَحْرُ و شِحْرُ عمان: عمان وعدن کے مابین ساحل سمندر۔ الشِحْرة: تنگ ساحل۔ الشَحَّار عند العامة: آتش فشانی یا ریتلی زمین، کالک، اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ شَحَّرَہٗ فتشحّر: اس نے اس پر کالک ملی تو وہ اس سے لتھڑ گیا۔ اس سے اسم شِحتلو ہے (سریانی)۔ الشَحْرُور ج شَحَارِير: نیز اسے الشُحْرُور بھی کہتے ہیں: ترنم (پرندہ)۔ المَشْحَرة: کوئلے بنانے کا گودام۔

شَحَّرَ ہٗ: کو کالک سے سیاہ کرنا۔ مَشْحَر: لکڑی کے کوئلہ کی بھٹی یا گودام۔ مَشْحَري: لکڑی کے کوئلہ کا برتر۔ مُشَحَّر: دھوئیں سے کالا، کالا سا۔

شحز: شَحَزَ ـَ شَحْزًا: گھبرانا، خوفزدہ ہونا۔

شحص: أَشْحَصَ ہٗ: کو تھکا دینا۔ ـــ ہٗ من المكان و شَحَّصَہٗ عنه: کو کسی جگہ سے دور کرنا، بیدخل کرنا، جلاوطن کرنا۔

شحط: ۱- شَحَطَ ـَ شَحْطًا و شَحَطًا و شُحُوطًا و مَشْحَطًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ ـــ اللبنَ: دودھ کا پانی بڑھانا، زیادہ کرنا۔

شحط: ۱- شَحَطَ ـَ شَحْطًا و شَحَطًا و شُحُوطًا و مَشْحَطًا فلانًا: سے آگے بڑھنا اور دور ہونا۔ ـــ ہٗ عند العامة: کو ہٹانا، دور کرنا۔ ـــ المكانُ: جگہ کا دور ہونا۔ شَحَطَ ـ شَحَطًا المكانُ: جگہ کا دور ہونا۔ أَشْحَطَہٗ: کو دور کرنا۔ الشَحْط و المِشْحَط: وہ لکڑی جس پر انگور کی بیل زمین سے اٹھا کر لٹکائی جائے۔ عوام اسے "مسوک" کہتے ہیں۔ منزلٌ شاحِطٌ: دور کی منزل۔ الشُحَّاط: دور۔ شَواحِطُ الأودية: دور کی وادیاں۔ الشَوْحَطة: لمبی گھوڑی۔

۳- شَحَطَ ـَ شَحْطًا و شَحَطًا و شُحُوطًا و مَشْحَطاتٍ العقربُ الرجلَ: بچھو کا آدمی کو ڈنک مارنا، ڈسنا۔ ـــ الجمَلَ: اونٹ کو ذبح کرنا۔ شحط ـ شَحْطًا الجملَ: اونٹ کو ذبح کرنا۔ شُحط

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بالدم: خون میں تھڑنا، آلودہ ہونا۔ شَحَّطَ ہُ: کو خون سے لتھیڑنا، آلودہ کرنا۔ تَشَحَّطَ بِالدمِ: خون میں لتھڑنا، خون آلود ہونا۔ الشَحْط (مص): خون وغیرہ سے آلودگی۔

۴۔ شَحَطَ - شَحْطاً ہُ علی الارض: کو زمین پر گھسیٹنا (سریانی)۔ ــــ عودَ الثقاب: ماچس کی تیلی جلانا۔ الشَحْطَة و الشِحِيْطَة: ماچس کی تیلی، دیا سلائی۔ الشَحّاطَة: گھروں میں پہنی جانے والی جوتی۔ (عام لوگوں کی زبان میں)۔

۵۔ شَحَطَ - شَحْطاً و شَحَطاً و شُحُوطاً و مَشْحَطاً الطائِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ الشَحط: پرندے کی بیٹ۔

۶۔ الشاخوطة (ب): نہانی۔ ــــ عند العامة نزع کے وقت تیز تیز سانس خرانوں کے ساتھ۔

(ج) شحط - شحطا دور ہونا۔ ــــ ہ: دیا سلائی جلانا: ــــ جہاز کا ساحل پر چڑھ جانا، ریتلے کنارہ سے جا لگنا۔ شَحط: جہاز کا ساحل پر چڑھ جانا، ریتلے کنارہ سے جا لگنا۔ ــــ ہ: جہاز کو ریتلے ساحل سے لگا دینا، یا اس پر چڑھا دینا۔ شَحْطة جمع شَحْطات: (وردی پر) فیتی، ڈوری۔ شَحّاطَة جمع شحاطات: ماچس۔ شحیطة: ماچس۔ شَاحِط: دور، بعید، دور افتادہ، ساحل پر چڑھا ہوا۔

شحك: شَحَكَ - شَحْكاً الجدیَ: بکری کے بچے کے منہ میں تھوتھنی لگانا۔ الشِحَاك: تھوتھنی۔

شحل: شَحَّلَ الکرمَ: انگور کی بیل کی شاخوں کو تراشنا۔ اسے فصیح زبان میں قضب کہتے ہیں۔

شحم ۱۔ شَحَمَ - شَحْمًا ہُ: کو چربی کھلانا۔ شَحُمَ - شَحَامَةً: بہت چربی دار ہونا، موٹا ہونا صفت: شَحِم۔ شَحِمَ - شَحَماً: چربی کی خواہش کرنا صفت: شَحِم ــــ شُحُوماتِ الناقةُ: اونٹنی کا لاغری کے بعد موٹا ہو جانا۔ شَحَّمَ القومَ: لوگوں کو چربی کھلانا۔ اَشْحَمَ: بہت چربی والا ہونا۔ ــــ القومَ: کو چربی کھلانا۔ الشَحْم: جس کے ایک ٹکڑے کو شحمۃ کہا جاتا ہے۔ ج شُحُوم: چربی۔ الشاحِم: چربی فروش۔ رجُلٌ شاحِمٌ لاحِمٌ: چربی اور گوشت سے بھرا ہوا آدمی یا چربی اور گوشت بہت کھلانے والا۔ الشحّام: چربی فروش، لوگوں کو بہت چربی کھلانے والا۔ الشَحْمَة: چربی کا ٹکڑا۔ شَحْمَةُ الارض: سانپ کی چھتری۔ ــــ العین: آنکھ کا ڈھیلا۔ ــــ الأُذِن (ع ا): کان کی لو۔ ــــ الرُمّان: انار کے اندر دانوں کے بیچ میں باریک چھلکا۔ ــــ المَرْج: ایک بوٹی جو دوائی کے طور پر کام آتی ہے۔ ضرب المثل ہے: ما کل بیضاء شحمة ولا کل سوداء تمرة: جس کا یہ مفہوم ہے کہ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ الشَحِم: تھوڑے رس والا انگور۔ الشَحَم: بے جا غرور، جھوٹی شان، اکڑ، اکڑ فوں، ہیکڑی، خود پسندی، تکبر۔ الشحیم: فربہ، موٹا۔ المُشَحِّم و المُشْحِم: اپنے گھر میں بہت چربی رکھنے والا، بہت گری والا پھل (عام زبان میں)۔ المُشَحَّم و المَشْحُوم: چربی سے بنائی ہوئی چیز، چربی سے تیار کردہ شے۔

۲۔ الشَحِيم و الشَحِيمَة: موارنہ و سریانیوں کی نمازوں کی کتاب۔

(ج) شَحُمَ - شَحَامَةً: چربی دار ہونا یا بن جانا۔ شَحَّمَ ہ: کو گریس لگانا، کو تیل دینا۔ شَحْم جمع شُحُوم و شحومات: مشین کا تیل، گریس، چربی، (پھل کا) گودا۔ شَحْمِي: چربی دار۔ شَحِم: گودا دار پلپلا (پھل)۔ مِشْحَمَة جمع مَشَاحِم: گریس کا ڈبہ۔ تشحیم: تیل دینا، گریس لگانا، oiling (of اور lubrication greasing machine)۔ زیوت التشحیم: مشین کے تیل lubricants۔ مُشَحَّم: چربی، چربی دار، گریس دار۔ مُشْحِم: گودا دار، پتلے گودے کا، پلپلا (پھل)۔

شحن: ۱۔ شَحَنَ - شَحْنًا السفینةَ: کشتی بھرنا، پر کرنا۔ ــــ المدینة بالخیل: شہر کو گھوڑوں سے بھرنا۔ أَشْحَنَ المکانَ: جگہ بھرنا۔ الشَحْن (مص): (عند البحریة و شرکات سکك الحدید و اصحاب السّیارات الکبیرة): سامان جو کشتیوں، جہازوں، ریل کے ڈبوں یا ٹرکوں میں بار کیا جاتا ہے۔ سَیّارةُ الشَحن: ٹرک۔ الشِحْنَة جمع شِحَن: بارِ جہاز، جہاز کی کھیپ، جہاز وغیرہ سے جانے والا مال، بندھے ہوئے گھوڑے۔ (کہتے ہیں: بالبلد شِحنةٌ من الخیل: شہر میں بندھے ہوئے گھوڑے ہیں)۔ جانوروں کے لئے ایک دن رات کا چارہ یا رسد۔ شِحْنَةُ البلد: پولس۔ مرکبٌ شَاحِنٌ: سامان سے لدا ہوا جہاز یا کشتی۔ الشَاحِنة جمع شَاحِنات: مال گاڑی کا ڈبہ، ریل گاڑی کا ایک ڈبہ جس میں مسافر بیٹھتے ہیں۔ اسے حافلة بھی کہتے ہیں۔

۲۔ شَحَنَ - شَحْنًا الرجُلَ: کو دھتکارنا، نکالنا، دور کرنا۔ ــــ الکلابُ: کتوں کا شکار کے پیچھے دور تک نکل جانا مگر شکار نہ کرنا۔

۳۔ شَحِنَ - شَحَنًا علیه: سے کینہ رکھنا۔ شَاحَنَ ہ: سے بغض و عداوت رکھنا۔ تَشَاحَنوا: آپس میں بغض و کینہ رکھنا، ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھنا۔ الشَحْناء: دشمنی، کینہ، بغض۔ الشِحْنَة ج شِحَن: دشمنی۔ عدُوّ مُشاحِن (فا): سخت دشمنی اور بغض رکھنے والا دشمن۔

۴۔ أَشْحَنَ السیفَ: تلوار کو میان میں ڈالنا، سونتنا (ضد)۔ ــــ له بسهم: کو تیر مارنے کے لئے تیار ہونا۔ ــــ الصبیُّ: بچہ کا رونے کے لئے تیار ہونا۔

(ج) شَحَنَ - شَحْنًا ہ ب: کو سے بھرنا۔ ہ ب: جہاز وغیرہ پر مال لادنا، جہاز میں مال بھرنا، لادنا۔ ــــ ہ: (سامان) لادنا، کو (جہاز وغیرہ کے ذریعے) بھیجنا، بذریعہ (جہاز ریل وغیرہ) ارسال کرنا۔ ــــ ہ ب: کو سے لادنا۔ ــــ ہ: کو ہانکنا، ہانک کر لیجانا، لیجانا، کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، رگیدنا، کھدیڑنا، کو دھکیلنا، دور کرنا۔ شَاحَنَ ہُ: سے نفرت کرنا، سے جھگڑنا، بحث کرنا، لڑنا۔ أَشْحَنَ ہ بِ: کو سے بھرنا، پر کچھ لادنا، کو کے ذریعے بھیجنا۔ تشاحن: ایک دوسرے سے نفرت کرنا، جھگڑنا، باہم منافرت کرنا۔ شَحْن: لادنا، بھیجنا، (بذریعہ ریل جہاز وغیرہ)۔ جہاز کے ذریعے بھیجا ہوا مال، جہاز کی کھیپ، بارِ جہاز، جہاز وغیرہ کے ذریعے جانے والا مال، جہاز میں لدنے والا مال (lading)، بوجھ، بار، لادنا، لیجایا ہوا مال۔ بُولِیْصَةُ الشحن: جہاز میں لدنے والے مال کی فہرست۔ سیّارة الشحن: ٹرک، لاری۔ شَحْنَة جمع شحنات: جہاز وغیرہ کے ذریعہ جانے والا مال۔ شِحْنه: پولس، پولس فورس۔ شَحْناء: بغض، کینہ، نفرت، دشمنی، عداوت۔ مُشَاحَنَة جمع مُشاحنات: بغض، کینہ، نفرت، عداوت، دشمنی، جھگڑا، باہمی منافرت، نزاع۔ شَاحِن: لدا ہوا۔ شاحِن المَرْکَم: بیٹری چارجر۔ شَاحِنة جمع شاحنات: ٹرک، لاری۔ مَشْحُون: لدا ہوا (خصوصاً جہاز) چارج شدہ (برق)۔ مشحونات: جہاز وغیرہ میں لدا ہوا مال، جہاز کے ذریعہ لیجایا جانے والا یا جانے والا مال۔

شحا: شَحَا - شَحْواً الرجُلُ: منہ کھولنا، قدموں کو دور دور رکھنا۔ ــــ اللجامُ فمَ الفرسِ: لگام کا گھوڑے کے منہ کو کھولنا۔ ــــ الفمُ: منہ کھلنا۔ أَشْحَی فاهُ: کا منہ کھولنا۔ شَحَّی تَشْحِيَةً فوهُ: منہ کھلنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شَخَّى عليه: کے بارے میں زبان درازی کرنا۔
شَخا: ہر وسیع و کشادہ شے۔ الشَّخو: اندر۔
شَخوة: اسم مرة، قدم۔ کہتے ہیں: فرسٌ بعيدُ
الشحوة: دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔ رجلٌ بعيد
الشحوة في مقاصده: اپنے ارادوں میں عالی حوصلہ
آدمی۔ الشَّخْواء: چوڑا کنواں۔
شَخِيَ يَشْخَى شَخًى: بمعنی شحا۔

شخ: ا۔ شَخَّ ـُ شَخًّا: پیشاب کرنا۔ — في النوم: نیند میں خراٹے لینا۔ — اللبنُ: دوہنے کے وقت دودھ سے آواز نکالنا۔

۲۔ شَخْشَخَ ببَوْله: پیشاب کی دھار کو دور پھینکنا۔ صفت: شَخشاخ۔ — ت الناقةُ: اونٹنی کا بیٹھے بیٹھے سینہ ابھارنا۔ الشخشخة (مص): ہتھیاروں کی جھنکار، کاغذ یا نئے کپڑے اور ہر خشک چیز کی آواز۔

○ شَخَّ ـُ شَخًّا: پیشاب کرنا۔ شَخّ: پیشاب۔ شخاخ: پیشاب۔ مِشَخَّة: عوامی پیشاب خانہ public lavatory۔

شخب: ا۔ شَخَبَ ـُ ـَ شَخْبًا و مَشْخَبًا اللبنُ: دودھ دوہنا۔ — اللبنُ: دودھ کا بہنا۔ — ت اوداج القتيل دمًا: مقتول کی رگوں کا خون بہنا۔ اِنْشَخَبَ: دوہا جانا۔ الشَّخْب (مص): خون۔ — و الشُّخْب: دوہتے وقت دودھ کی دھار۔ الشُّخْبة جمع شِخاب: دودھ کی دھار۔ الشِّخاب: دوہتے وقت کا دودھ۔ الأُشْخوب ج أشاخيب: تھنوں سے دودھ نکلنے کی آواز۔ وَدَجٌ شَخِيب: خون بہانے والی گردن کی کٹی ہوئی رگ۔

۲۔ الشِّنْخاب و الشُّنْخوب و الشُّنْخُوبة جمع شَناخِيب: پہاڑ کی چوٹی۔

○ شَخَبَ ـُ شَخْبًا: بہنا، زور سے نکلنا، پھوٹ نکلنا۔

شخت: ا۔ شَخُتَ ـُ شُخُوتةً: چھریرے بدن والا ہونا۔ صفت: شَخْت و شَخَت جمع شِخات: کہتے ہیں: هو شَخْتُ العطاء: وہ کم داد و دہش والا ہے۔ هو شخت الخلق: وہ کمینہ خصلت ہے۔ شَخَّتَهُ اليه: کو تک پہنچانا۔ الشَّخْت و الشِّخِّيت و الشَّخِيت و الشِّخْتِيت: بلند غبار۔

۲۔ الشَّخْتور و الشَّخْتورة: چھوٹی کشتی، ڈونگا (کہا جاتا ہے اس کی اصل انگریزی لفظ ہے)۔

○ شَخْبَطَ: (لکھنے میں) گھسیٹنا، شکستہ لکھنا، جلدی جلدی گھسیٹنا۔ شَخْتور و شَخْتورة جمع شَخاتير: بجرا، بلی سے کھینچنے والی سیدھی ناؤ (punt)، چپٹے پیندے کی چوبی کشتی۔

شخر: ا۔ شَخَرَ ـِ شَخِيرًا: حلق یا ناک سے آواز نکالنا۔ — شَخِيرًا و شَخْرًا الفرسُ او الحمارُ: گھوڑے کا ہنہنانا، گدھے کا ڈھینچو ڈھینچو کرنا۔ الشَّخِير: حلق یا ناک سے نکلنے والی آواز۔ الشِّخِّير: بہت خراٹے لینے والا۔

۲۔ شَخْرُ الحِلس: کجاوہ باندھنے کیلئے جانور کی پیٹھ سے ٹاٹ اٹھانا۔ — النخلةَ: ٹوٹنے کے خوف سے کھجور کے خوشہ کو ٹہنی پر رکھنا۔ الشَّخْرُ من الرَّحْل: کجاوہ کی درمیانی جگہ۔

۳۔ الشَّخْر من الشباب: آغاز جوانی۔ الشخير: پہاڑی راستہ۔

○ شَخَرَ - شَخِيرًا: خراٹے لینا۔ نتھنوں سے آواز نکالنا، (گھوڑے کا) ہنہنانا (گدھے کا) رینگنا۔

شخز: شَخَزَ - شَخْزًا: بیقرار ہونا، مضطرب ہونا۔ — عليه الأمرُ: پر کوئی کام دشوار ہونا۔ — هُ بالرمح: کو نیزہ سے مارنا، کو نیزہ مارنا۔ — بينهم: کے درمیان فساد ڈالنا، دشمنی برانگیختہ کرنا۔ تَشاخَزَ القومُ: آپس میں بغض و عناد رکھنا۔ الشَّخْز (مص): مشقت کی سختی۔

شخس: ا۔ شَخَسَ ـَ شَخْسًا الرجلُ: مضطرب ہونا۔ شاخَسَ امرُ القوم: مختلف ہونا۔ تَشاخَسَ امرُهم: معاملہ بگڑنا، معاملہ میں اختلاف ہو جانا، منقسم ہو جانا۔ — ت أسنانُهُ: بڑھاپے کے باعث بعض دانتوں کا گر کر اونچے نیچے ہو کر بے ترتیب ہونا۔ الشخيس: حکم کے خلاف کرنے والا، امر متفرق۔

۲۔ شَخَسَ ـَ شَخْسًا الحمارُ: گدھے کا جمائی لیتے ہوئے منہ کھولنا۔ شاخَسَ الحمار: گدھے کا لید سونگھ کر سر اونچا کر کے منہ کھولنا۔ تَشاخَسَ الحمارُ: بمعنی شَخَسَ یا شاخَسَ الحمار۔

۳۔ أشْخَسَ الرجلَ و به: کی غیبت کرنا۔ — له في المنطق: کے ساتھ گفتگو میں ترشروئی کرنا۔

شخص: ا۔ شَخَصَ ـَ شُخُوصًا الشيءُ: بلند ہونا۔ — النجمُ: ستارہ کا طلوع ہونا۔ — الجرحُ: زخم کا سوجنا۔ — بصرُهُ: ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ — الميتُ بصرَهُ و ببصره: میت کی آنکھوں کا کھلا رہ جانا۔ أشْخَصَ الرامي: تیر انداز کے تیر کا نشانہ سے اوپر لگنا یا لگانا (لازم و متعدی)۔

۲۔ شَخَصَ ـَ شُخُوصًا عن قومه او من بلد إلى بلد: چلے جانا، کوچ کر جانا۔ — اليهم: کے پاس واپس آ جانا۔ شُخِصَ به: کسی امر کے پیش آنے سے کسی کا بیقرار و بیکل ہونا، گھبرانا۔ اسی سے ہے: شخوصُ المسافر: مسافر کا اپنی منزل سے نکل جانا۔ أشخص الرجلُ: کے جانے کا وقت قریب آنا۔ — هُ: کو بے آرام کرنا، بیقرار کرنا۔ — هُ الى قومه: کو قوم میں واپس کرنا، لوٹانا۔

۳۔ شَخُصَ ـُ شَخاصةً: بدن کا بھاری ہونا، موٹا ہونا۔ شَخَّصَ الشيءَ: کو متعین کرنا، دوسری چیزوں سے ممیز کرنا۔ اطباء کے نزدیک تشخیص امراض بھی اسی سے ہے۔ — الراوية: تمثیل پیش کرنا (عام زبان میں)۔ تَشَخَّصَ: معین ہونا۔ — له: کو کسی شخص کی صورت میں دکھائی دینا۔ تَشاخَصوا: آپس میں اختلاف کرنا۔ الشخص ج أشْخُص و أشْخاص و شُخُوص: وجود جو دور سے دکھائی دے، انسان (مذکر و مونث)۔ — عند المولّدين: پتھر وغیرہ سے بنائی ہوئی مورتی۔ الشخيص م شَخِيصة: جسیم، سردار۔

۴۔ أشْخَصَ به: کی غیبت کرنا۔ — له في المنطق و أشْخَصَ اليه: سے گفتگو میں ترشروئی کرنا۔ الشخيص من المنطق: ترشروئی سے گفتگو کرنے والا۔

○ شُخْشَيْخَة جمع شَخاشِيخ: جھن جھن کرنے والا کھلونا، جھنجھنا، کھلونہ، سقفی روشندان (skylight)۔

○ شَخَصَ ـَ شُخُوصًا: اٹھنا، بلند ہونا، طلوع ہونا (ستارہ کا)، شخص ل: کے سامنے آنا۔ — الى: (آنکھ کا) کو گھورنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا؛ (نگاہ کا) پر جما ہونا، گڑا ہونا۔ — (مرنے والے کی آنکھوں کا) پتھرا جانا۔ — الى: کا کو ملنے کے لئے روانہ ہونا، کا کسی جگہ کیلئے چل پڑنا، کو ملنے کے لئے سفر کرنا، کسی جگہ پہنچنے کے لئے سفر کرنا۔ — من إلى: ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا۔ شخص بصره یا شخص ببصره الى: اپنی آنکھیں پر جمانا، گاڑنا، آنکھیں پر گاڑ کر دیکھنا، کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا، گھورنا۔ شَخَّصَ ه: کی ایک شخص یا فرد کے طور پر نمائندگی کرنا، کا مجسمہ ہونا، کو مجسم بنا کر پیش کرنا، کی صراحت کرنا، تعیین کرنا، کی تفصیلات دینا۔ — ه و ه: کو پہچاننا، شناخت کرنا، کی نشان دہی کرنا۔ — ه: کا کردار ادا کرنا۔ تمثیل پیش کرنا۔ — مرضًا: بیماری کی تشخیص کرنا۔ أشْخَصَ ه: کو بھیجنا۔ تَشَخَّصَ ل: کے سامنے آنا، کے سامنے ظاہر ہونا، اپنے آپ کو کسی کو دکھانا۔ شخص جمع أشخاص و شُخوص: فرد، شخص، بدن، جسم، مشہور انسان، (کسی کھیل کا) کردار، کوئی۔ شَخْصي: ذاتی، نجی، کا اپنا، اپنی۔ شخصيًّا؛ اصالةً: بذات خود قانونُ (او نظام)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الاحوال الشخصية: نجی حالات کا قانون۔ شخصية جمع شخصيات: انفرادیت، شخصیت، مخصوص طرز زندگی، خصوصیت، مخصوص شخصیت، ذاتی چھاپ، شناخت۔ شخصية اعتبارية: قانونی شخص۔ تحقيق الشخصية: ایک شخص کی شناخت۔ شهاده تحقيق الشخصية: شناختی کارڈ، قلم تحقيق الشخصيّة: شناختی محکمہ bureau of identification۔ شخصاتي: ایکٹر، مزاحیہ اداکار۔ تشخيص: تجسم، تمثل؛ صحیح تعین، تقرر، تفصیل، تشریح شناخت، تشخیص (مرض) اداکاری (فنکارکا) کام، اداکاری۔ طبيب تشخيصي: مرض کی تشخیص کرنے والا طبیب، ڈاکٹر۔ شاخص: جمی ہوئی گڑی ہوئی (نظر)۔ مُشَخِّص: ایکٹر، نمائندہ۔ مُشَخِّصَة جمع مشخصات: ایکٹریس، شخصیت۔ مُشخِصات: خصوصیات۔

شخل: شَخَلَ ـ شَخْلاً الشرابَ: مشروب یا شراب صاف کرنا۔ ــــ الناقَةَ: اونٹنی کو دوہنا۔ شاخَلَ هُ: سے سچی دوستی کرنا۔ الشَخْل و الشَخِيل: سچا دوست۔ المِشْخَل و المِشْخَلَة: چھلنی۔

○ شَخْلَلَ: چھنکنا، ٹن ٹن بجنا۔ ــــ ب: کو کھڑکھڑانا، کھنکھٹانا۔ ـ: نخرے کرنا، ناز و ادا کرنا۔

شخم: ۱۔ شَخَمَ ـ و شَخِمَ ـ شَخِمَ ـ شُخُومًا و شَخْمًا الطعامُ او اللحمُ: کھانا (یا گوشت) خراب ہو جانا صفت: شَخِم۔ ـ الفمُ: منہ کا بدبودار ہونا۔ شَخَّمَ الطعامَ: کھانا خراب کرنا۔ ــــ الطعامُ: کھانے کا خراب ہونا۔ ــــ الفمُ: منہ کا بدبودار ہونا۔ أشْخَمَ الطعامُ او اللحمُ: کھانے یا گوشت کا خراب ہو جانا۔ ــــ الفمُ: منہ کا بدبودار ہونا۔ الشُخُم: وہ لوگ جن کی ناک تیز خوشبو یا بدبو سے بند ہو گئی ہو۔

۲۔ أشْخَمَ الرجُلُ: کا رونے کے لئے تیار ہونا۔

۳۔ إشْخَامَّ النبتُ: گیلی سوکھی گھاس کا آپس میں مل جانا۔

۴۔ رَوضٌ أشْخَم: نباتات سے خالی باغ۔ عامٌ أشْخَم: وہ خشک سال جس میں نہ پانی ہو نہ سبزہ۔ شَعَرٌ أشْخَم: سفید بال۔

شدّ: ۱۔ شَدَّ ـ شَدًّا عضدَه: کی مدد کرنا، کا ساتھ دینا۔ ــــ الشيءَ: چیز کو باندھنا، مضبوط کرنا۔ ــــ العقدةَ: گرہ کسنا، مضبوط کرنا۔ ـ على يده: کی مدد کرنا، کو قوت پہنچانا۔ ــــ ـ شِدَّةً: قوی ہونا۔ شَدَّدَهٗ: کو قوت پہنچانا۔ ـ الضربَ: بہت مارنا۔ ـ عليه: پر تنگی ڈالنا۔ ـ الحرفَ: حرف کو مشدد کرنا۔ ــــ الشيءَ: کو مضبوط کرنا۔ شَادَّهٗ في الأمر: پر کسی معاملہ میں غالب آنے کی کوشش کرنا، کا کسی معاملہ میں مقابلہ کرنا۔ أشَدَّ: مضبوط جانور رکھنا، عقل یا عمر کی پختگی تک پہنچنا۔ تَشَدَّدَ: قوت والا ہونا، کسی کام میں سخت ہونا، بے لچک ہونا۔ تَشَادَّ الشيءُ: مضبوط ہونا۔ إشْتَدَّ: قوت والا ہونا، قوی ہونا۔ ــــ عليه المرضُ: کی بیماری کا بڑھ جانا۔ الشَدّ (مص): شدُّ الرِحالِ: سفر کرنے کا کنایہ ہے۔ لا املكُ شَدًّا و إرخاءً: میں کچھ نہیں کرسکتا، بے بس ہوں۔ لَشَدَّ ما جنيتَ عليَّ: میرے خلاف تمہارا جرم کتنا سخت ہے۔ الشَدَّة: شد کا اسم مرہ۔ الشِدَّة جمع شِدَد: اشتداد کا اسم، سختی تنگی، مصیبت۔ شِدَّةُ الأرض: زمین کی سختی، کرختگی۔ الشُدَّى: بمعنی شِدّه۔ الشديد ج أشِدَّاء و شِداد و شُدُود: قوی، مضبوط (کہتے ہیں: مِسك شديدُ الرائحة: تیز خوشبو کا مشک)، مضبوط، کنجوس، بخیل۔ رجُلٌ شديدُ العين: وہ شخص جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ الشَدِيدَة جمع شَدَائِد: شدید کا مؤنث۔ الحروفُ الشديدة: وہ آٹھ حروف جو آپ کے اس قول میں جمع ہیں: اَجَدْتَ طبقَكَ۔ الأشُدّ و الأُشُد: کہتے ہیں: بَلَغَ فلانٌ أشُدَّه: وہ سن بلوغ کو پہنچا، وہ جوانی کی عمر کو پہنچا۔ سن بلوغ ۱۸ سے ۳۰ سال کی عمر۔ المِشَدّ: وہ کپڑے جسے عورت اپنی کمر پر باندھتی ہے۔ المُشِدّ: مضبوط چاپایوں والا: المُتَشَدِّد (فا): معاملات میں سخت، کنجوس۔

۲۔ شَدَّ ـ شَدًّا الرجُلُ: دوڑنا۔ ــــ شَدًّا و شَدَّةً و شُدُودًا على العدو: دشمن پر حملہ کرنا۔ إشْتَدَّ في السير: تیز دوڑنا۔ ـ على قرنه في الحرب شَدَّةً: جنگ میں اپنے دشمن پر حملہ کرنا۔ الشَدِيد جمع أشِدَّاء و شِدَاء و شُدُود: بہادر (خ): شیر۔ الشَدَّة: جنگ میں حملہ۔

۳۔ شَدَّ ـ شَدًّا النهارُ: دن چڑھنا۔ شَدُّ النهار: دن چڑھنے کا وقت۔ کہتے ہیں: اتانا شدَّ النهار و في شَدِّ النهار: وہ دن چڑھنے کے وقت ہمارے پاس آیا۔ الشَدِيد ج أشِدَّاء و شِدَاد و شُدُود: بلند۔ کہتے ہیں: هو شديدُ الخُنزُوانة: وہ بہت متکبر اور خود پسند ہے۔

۴۔ الشَدَّة عند العامة: جوتا، تاش کا پتہ۔

○ شد على: کسی چیز پر زور دینا، پر دباؤ ڈالنا۔ شدَّ في: پر اصرار کرنا۔ شَدَّ ما و لَشَدَّما: کتنا زیادہ، بہت زیادہ، بہت [illegible]

کان سرورنا اذ: جب (ایسا ہوا) تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شَدَّ أزْرَهُ یا شَدَّ مِن ازرِه: کی مدد کرنا، تائید کرنا، کی ہمت افزائی کرنا، کی پشت پناہی کرنا۔ شدّ ازرُهُ: توانا، طاقتور، باہمت، مستعد، سرگرم ہونا۔ شدَّ الزمام: مضبوطی سے لگامیں تھام لینا، صورت حال پر کنٹرول کر لینا۔ شدّ من عزائمه: کے پکے ارادوں کو تقویت پہنچانا۔ شدّ على راحلته: سفر پر روانہ ہونا۔ شدّ الرحال إلى: کے لئے روانہ ہونا۔ شدَّ و ثاقَه: کو بیڑیاں ڈالنا، گرفتار کرنا۔ شدَيده على: سے چپکنا، لگا رہنا۔ شَدَّ على يديه: کے ہاتھ بھینچنا۔ شدُّ الحبل: رساکشی (tug of war)۔ شديد الاعتناء: بہت متوجہ، بہت محتاط۔ شديد الباس: بہادر، جیالا۔ شديد الشكيمة: ضدی، ہٹ دھرم۔ شديد اللهجة: سخت الفاظ پر مشتمل۔ شديد الوطاة: ظالم، جفاجو، ستمگر، جفاکار، جفاپیشہ، ستم شعار۔ اشَدُّ سواداً: زیادہ سیاہ۔ اشدَّ غضباً: زیادہ ناراض، زیادہ غضبناک، زیادہ قہر آلود۔ اشدّ مايكون: بہت زیادہ۔ روحُهُم اشدمايكون تعطشاً إلى العلم: وہ علم کے لئے ازحد سرگرم ہیں۔ ظروف مشدِّدة: سنگین حالات۔

شدح: ۱۔ شَدَحَ ـ شَدْحًا: موٹا ہونا، فربہ ہونا، صفت: شادِح۔

۲۔ إنْشَدَحَ: چت لیٹ کر پاؤں کو کشادہ کرنا۔ الشادح من الكلاء: وسیع سبزہ۔ الأشْدَح: ہر وسیع شے۔ الشُدْحَة و المُشْتَدَح: کشادگی، فراخی۔ کہتے ہیں: لَكَ عنه شُدْحَةٌ او مُشتَدَح: تمہیں اس کے بارے میں فراخی حاصل ہے۔

شدخ: ۱۔ شَدَخَ ـ شَدْخًا الرأسَ: سر توڑنا۔ ــــ الرجُلَ: کو گردن کٹنے کی جگہ پر مارنا۔ شَدَّخ الرأسَ: سر توڑنا۔ تَشَدَّخ الرأسُ: سر ٹوٹ جانا۔ إنْشَدَخَ الرأسُ: سر ٹوٹنا۔ الشَدِخ: ناتمام بچہ۔ قبل از وقت پیدا ہونے والا بچہ۔ الشَدْخَة من النبات: تازہ و لچکدار اور نرم پودے۔ الشادِخ (فا): چھوٹا و نازک۔ غلامٌ شادِخ: جوان لڑکا۔ الشادِخة: شادخ کا مونث۔ المُشَدَّخ (مفع): گردن کٹنے کی جگہ۔

۲۔ شَدَخَ ـ شَدْخاً: اعتدال سے ہٹ جانا۔ ــــ شَدْخا و شُدُوخاً غُرَّةُ الفرس: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا ناک تک پھیلنا۔ أشْدَخ: ناک تک پھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ امرٌ شادِخ: اعتدال سے ہٹا ہوا امر۔ الشادِخَة: گھوڑے کی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پیشانی کی ناک تک پھیلی ہوئی سفیدی۔ الأشدخ
من الخیل: ناک تک پھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا
مونث شدخاء جمع شُدْخ۔ (ح): شیر۔
○ شَدَخ ـَ شَدْخًا ہ و شَدَّخ ہ: کو توڑنا، پاش
پاش کرنا، توڑ پھوڑ ڈالنا، تہس نہس کرنا، کچل ڈالنا۔
شدف: ۱۔ شَدَف – شَدْفًا ہ: کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا۔
الشُدفة: ٹکڑا۔
۲۔ أشْدَف اللیلُ: رات کا تاریک ہونا، الشَدَفُ ج
شُدُوف: تاریکی، ہر چیز کا وجود۔ الأشْدَف م
شَدْفاء جمع شُدْف (ح) بڑے جسم کا گھوڑا۔
۳۔ شَدِف – شَدَفًا الفرسُ: گھوڑے کا کلیلیں کرنا۔
تَشادَف: جھکنا۔ الشَدَف (مص) جمع شُدُوف:
رخسارہ کا جھکاؤ، اونٹ کے سر کی پیچیدگی۔ الأشدف
م شدفاء جمع شُدُف: نشاط کے ساتھ چلنے والا
اونٹ، مائل رخسارہ والا، بائیں ہاتھ سے کام کرنیوالا۔
کھبو، سخت تر، مشکل تر۔
۴۔ الشَدِف: لمبا تیز کودنے والا۔
○ شادِر جمع شَوادِر: خیمہ، گودام، بڑی دوکان،
ذخیرہ۔
شادوف: جمع شوادیف: نہری پانی بلند کرنے کے لئے
پانسے کا لمبا موڑ۔ counterpoised sweep
for raising irrigation water
شدق: ۱۔ شَدِق – شَدَقًا: چوڑی باچھوں والا ہونا،
صفت: أشْدَق م شَدْقاءُ جمع شُدْق۔ تَشَدَّق:
فصاحت دکھانے کے لئے باچھیں کھولنا۔ لوگوں کے
ساتھ تمسخری کرنا۔ ـــ بالکلام و فیه: بلا احتیاط ہر
قسم کی گفتگو کرنا۔ الشِدْق و الشَدْق جمع
أشْداق و شُدُوق: باچھ، جبڑا۔ شِدْقُ الوادی:
وادی کا کنارہ۔ الشَدِیق من الوادی جمع
شُدُق: وادی کا کنارہ۔ الأشْدَق: چوڑی باچھوں
والا، أفصح الکلام۔
○ تَشَدَّق ب: شیخی سے بلند آواز میں کسی بات کا اعلان
کرنا، کی بڑ ہانکنا، ـــ: چیڑ چیڑ باتیں کرنا، بچوں کی سی
باتیں کرنا۔ ـ بالکلام: ضرورت سے زیادہ احتیاط
کے ساتھ کچھ کہنا، بناوٹ سے بات کرنا۔ ضحك بملء
(ملء) شِدْقیه: کھیس نکالنا، کھسیانی ہنسی ہنسنا۔
أشدق: چوڑے منہ والا۔ مُتَشَدِّق جمع
متشدقون: شیخی خورہ۔
۲۔ الشَدْقَم و الشُداقِم: چوڑی باچھوں والا، شیر۔
۳۔ الشِدْیاق جمع شَدایِقه عند للنصاری: کاہن
سے ادنی درجہ کا پادری (یونانی لفظ)۔

شدن: شَدَن ـُ شُدُونًا الظبیُ: ہرن کا طاقتور ہو کر
ماں سے بے نیاز ہونا۔ أشْدَنت الظبیةُ: ہرنی کا
چلنے کے قابل بچہ والی ہونا، صفت: مُشْدِن ج مَشادِین
و مَشادین۔ الشادِن (فا): جب مطلق بولا جائے تو
مراد ہرن کا بچہ ہوتا ہے۔ الشَدَن (ن): چنبیلی کے
مانند پھول دینے والا ایک پودا۔
○ شَدَن ـِ شَدْنًا: جوان جانور کا اپنے پاؤں پر کھڑا
ہونے والا ہونا، دودھ چھڑانے والی عمر والا ہونا۔
شادِن جمع شوادِن: ہرن کا بچہ۔
شده: ۱۔ شَدَہ – شَدْهًا الرأسَ: سر کچلنا۔
۲۔ شَدَہ – شَدْهًا الرجلَ: کو بوکھلا دینا، حیرت میں
ڈالنا، چکرا دینا، حیران کرنا، پریشان کرنا۔ شُدِہ:
حیران ہونا، پریشان ہونا، دہشت زدہ ہونا۔ اُشْدِہَ
الرجلَ: کو بوکھلا دینا، حیرت میں ڈالنا، چکرا دینا، حیران
کرنا، پریشان کرنا۔ اِشْتُدِہ و اِنْشَدَہ: حیران
ہونا۔ الشُداہ و الشُدْہ و الشَدْہ و الشَدَہ:
حیرت، دہشت۔ المَشادِہ: مشاغل، حیران کرنے
والے معاملات۔
○ مَشْدُوہ: حیران، پریشان، بوکھلایا ہوا، دہشت زدہ،
خوف زدہ۔
شدا: ۱۔ شَدَا ـُ شَدْوًا الرجلُ: گا گا کر شعر پڑھنا۔ ـــ
الشِعرَ: شعر کو راگ سے اور گا کر پڑھنا۔ ـ الابلَ:
اونٹ کو حدی گا کر ہانکنا۔ أشْدَی إشْداءً: عمدہ گانا
گانا۔
۲۔ شَدَا ـُ شَدْوًا من العلم شیئًا: کچھ علم حاصل کرنا
صفت: شادٍ جمع شُداۃ و شادُون۔ الشَدَا:
قوت کا بقیہ۔ ـــ من الشیءِ: چیز کی حد، کنارہ۔
کہتے ہیں: اخذ منه شدا: اس نے اس سے کچھ
حصہ لیا۔ لم یبق من المریض إلّا شَدًا: یہ اس
وقت کہتے ہیں جب مریض قریب المرگ ہو۔ الشَدْو
(مص): بہت میں سے تھوڑا۔ کہتے ہیں: اخذوا
شدوًا من ماله: انہوں نے اس کے کثیر مال سے
تھوڑا سا لیا۔
۳۔ شَدَا ـُ شَدْوًا ہ فلانًا او بفلان: کو سے تشبیہ
دینا۔ ـ شَدْوَہ: وہ اس کی چال چلا۔
۴۔ الشَدَا: گرمی، کھجلی، خارش۔
شدی: الشِدِّیت: دھماکہ سے پھٹنے والا مادہ (فرانسیسی
لفظ)۔
○ شدا شیئا من العربیة: تھوڑی سی عربی جاننا۔
شدو: گیت گانا۔ شادٍ جمع شادُون تعلیم یافتہ،
تربیت یافتہ (فی اللغة مثلا)۔ شادِیه گانے والی۔

شذّ: شَذَّ ـِ شَذًّا و شُذُوذًا عن الجمهور
او الجماعة: جماعت یا عوام سے جدا ہونا۔ ـــ
القولُ: قول کا خلاف قیاس ہونا۔ ـ عن الاصول:
خلاف قاعدہ ہونا صفت: شاذ ج شُذّاذ و شَوَاذّ م
شاذّة ج شَوَاذّ۔ ـ شَذّذہ: کو شاذ کرنا، بنانا۔
شَذّذہ: کو شاذ کرنا، بنانا۔ اشَذّ: نادر بات کہنا۔ ـ
الشیءَ: کو ہٹانا، دور کرنا، شاذ کرنا یا بنانا۔ الشُذّاذ
من الناس: اجنبی لوگ، تھوڑے لوگ۔ کہتے ہیں:
جاؤوا شُذّاذًا: تھوڑے سے لوگ آئے۔ شُذّاذ
الآفاق: مسافر لوگ۔ الشُذّان و الشَذّان:
بکھری ہوئی کنکریاں یا پتھریاں۔ شُذّانُ الناس:
متفرق لوگ۔
○ شَذَّ ـِ شَذًّا و شُذُوذًا عن: سے علیحدہ ہونا، الگ
ہونا، کے باہر ہونا، سے بچنا، گریز کرنا۔ شذّ: اکیلا
ہونا، تنہا ہونا، خلاف قاعدہ ہونا۔ شذّ علی او عن:
سے منحرف ہونا، ہٹنا، تجاوز کرنا، سے نمایاں ہونا، سے
مستثنی ہونا، خالی ہونا، محروم ہونا۔ شَذّ: بے قاعدگی،
انحراف، خلاف قیاس ہونا۔ (عن): سے استثناء۔
شُذُوذٌ: بے قاعدگی، انحراف، خلاف قیاس ہونا،
استثناء۔ (عن): سے۔ تجسس، شک، سنکی کردار۔ شاذٍّ
جمع شُذّاذ و شَوَاذّ: جدا، علیحدہ، الگ، تنہا، بے
قاعدہ، خلاف قیاس، خلاف معمول، غیر معمولی، مافوق
العادت، استثنائی، عجیب، جمع شواذ: استثناءات،
مستثنیات۔ شاذ الاخلاق: منحرف اخلاق والا۔
شاذ الطبع، شاذ الطباع، شاذ الاطوار: سنکی،
نامعقول، حد سے متجاوز، پاگل، سودائی۔ شذاذ الآفاق:
اجنبی لوگ، ناواقف لوگ۔ شَوَاذّات: خصوصیات،
خبطی عادات۔
شذب: ۱۔ شَذَبَ ـِ شَذْبًا و شَذَّبَ اللحاءَ: چھال
چھیلنا۔ ـــ الشیءَ: کو کاٹنا ـــ المالَ: مال
بکھیرنا۔ ـــ الشجرَ: درخت کی شاخ تراشی کرنا،
اسکی ٹہنیاں چھانٹنا۔ تَشَذَّب: کٹنا، چھلنا، بکھرنا،
چھانٹا جانا۔ ـ القومُ: قوم کا متفرق ہونا۔ الشَذَب
ج أشْذاب: متفرق لکڑیاں، گھر کا سامان، کھائی ہوئی
گھاس کا بقیہ حصہ۔ کہتے ہیں: فی الارض شَذَبٌ
من الکلاء ومالهٔ الاشذبٌ من العسکر: ان
جملوں میں شذب بقیہ کے معنی میں ہے۔ درخت کے
ٹکڑے، چھلکے۔ الشَذَبة: شذب کا واحد: درخت
کی کاٹی ہوئی شاخ۔ الشاذِب (فا). وطن سے
دور۔ المِشْذَب: شاخ تراشی کا آلہ۔ المُشَذَّب
(مفع): کانٹے اتارا ہوا تنہ۔ فرسٌ مُشَذَّب: لمبا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پتلا گھوڑا۔

۲۔ شَذَبَ ـ شَذْبًا عنه: سے دفع کرنا، ہٹانا۔ شَذَّبَ هُ: کو دھتکارنا، نکال باہر کرنا۔ شَذَّبَ عنهُ: سے دفع کرنا، ہٹانا۔

۳۔ الشَوْذَب من الرجال: لمبا خوبصورت قد والا، ہر چیز کا بہترین حصہ۔

○ شَذَبَ ـ شَذْبًا ہ: (کو) کاٹ ڈالنا، الگ کرنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ ـــ ہ: درخت کی شاخوں اور باڑھوں کی کانٹ چھانٹ کرنا، تراش کر درست کرنا، تراشنا، چھانٹنا۔ ـــ ہ کو بدلنا، کا معالجہ کرنا، کی ترمیم کرنا۔ شَذَّب ہ کو بدلنا، کا معالجہ کرنا، میں ترمیم کرنا۔

شذر: ا۔ شَذَّر النظمَ: لڑی کو منکے سے جدا کرنا۔ کہتے ہیں: شَذَّر کلامَه بشعرٍ: کلام میں شعر داخل کرنا۔ تَشَذَّر القومُ: لوگوں کا متفرق ہو کر اپنے اپنے راستے لگنا۔ الشَذْر واحد شَذْرَة ج شَذَرات و شُذُور: سونے کے ریزے یا ٹکڑے جو کان سے چنیں جائیں۔ منکے جن سے جواہر کی لڑی میں فاصلے دیئے جائیں، چھوٹے موتی۔ شَذَرَ و شِذَرَ: کہتے ہیں: تفرقوا شَذَرَ مَذَرَ و شِذَرَ مِذَرَ: وہ مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔

۲۔ شَذَّرَ بفلانٍ: کو بدنام کرنا۔ تَشَذَّرَ: لڑائی یا شر کے لئے تیار ہونا، غصے ہونا، چستی سے کام لینا۔ ـــ هُ: کو ڈانٹنا، دھمکی دینا۔ ـــ القومُ فی الحرب: حد سے گزرنا۔

۳۔ الشَوذر: بڑی چادر، بے آستین قمیص۔

○ تَشَذَّر: بکھرنا، متفرق ہونا۔ شَذْرَة جمع شَذَرات و شُذُور: ذرہ، چھوٹا سا ٹکڑا، حصہ۔

شذف: شَذَفَ ـ شَذْفًا: کہا جاتا ہے: ما شَذَفْتُ منه شيئًا: میں اس سے کوئی چیز حاصل نہ کر سکا (یہ کلمہ نفی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا)۔

شذم: الشَذَام: بچھو یا بھڑ کا ڈنک، نمک۔ الشَیْذُمان (ح): بھیڑیا۔ الشَیْذُمانة (ح): تیز رو جوان اونٹنی۔

شذا: ا۔ شَذَا ـ شَذْوًا: مُشک لگانا۔ الشَذْو (مص): مُشک، مشک کی خوشبو۔ الشذا: بو کی تیزی، لکڑی کے ٹکڑے۔ الشَذَاة ج شَذَوات: شذا کا واحد۔

۲۔ شَذَا ـ شَذْوًا و شَذَّى تَشْذِيَةً بالخبر: خبر کو معلوم کر کے اس کو سمجھانا۔

۳۔ شذا ـ شَذْوًا و أَشْذَى فلانًا: کو اذیت دینا۔ الشَذَا: اذیت، برائی۔ (ح): مکھی۔

۴۔ أَشْذَى هُ عنه: کو سے دور ہٹانا۔

۵۔ الشذا: نمک، خارش، ایک قسم کی کشتی۔ الشَذَاة: قوت کا بقیہ، پرانی چیز۔

شرّ: ا۔ شَرَّ ـ شَرًّا و شَرارَةً و شَرَرًا: شریر ہونا، شر انگیز ہونا، صفت شر مونث شَرَّة ج أَشرار و شِرار و أشِرَّاء۔ شَرَّرَ و أَشَرَّ فلانًا: کو برائی کی طرف نسبت کرنا، کو دھتکارنا۔ شَارَّهُ: سے جھگڑا کرنا۔ تَشَرَّرَ: اپنے آپ کو برا ظاہر کرنا۔ تَشَارًّا: آپس میں جھگڑنا۔ الشَرّ (مص) جمع شُرُور: برائی، کینہ، دشمنی، جنگ عیب۔ کہتے ہیں: هو شَرُّ الناس و هم شِرار و أَشرار و اشرَّاءُ الناس و هی شَرَّة او شُرَّی النساء: یعنی وہ سب سے برا ہے یا ہیں وہ سب سے بری ہے یا ہیں۔ (اصل میں اشرّ (اسم تفضیل ہے) کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ حذف ہوگئی جیسے خیر میں) جنگ الشَرَّة: اسم تفضیل شر کا مونث ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: هی شَرَّةُ النساء جس طرح کہتے ہیں: هی خیرةُ النساء۔ الشُرّ: مکروہ ناپسندیدہ۔ کہتے ہیں: ماقلت ذلك لِشُرّك یعنی لشیٔ تکرهه: تمہاری کراہت کی وجہ سے میں نے یہ نہیں کہا۔ الشِرُّ: بمعنی شرّ۔ الشَرِیر ج أَشْرَار و أَشِرَّاء م شَرِيْرَة: برا۔ الشِرِّیر ج شِرِّیْرُون: بہت برا، ابلیس کا لقب۔

۲۔ شَرَّ ـ شَرًّا اللحمَ أَو الثوبَ: گوشت یا کپڑے کو خشک ہونے کے لئے دھوپ میں رکھنا۔ شَرَّرَ اللحمَ او الثوبَ: گوشت یا کپڑے کو دھوپ میں یا ہوا میں سوکھنے کے لئے رکھنا۔ أَشَرَّ اللحمَ او الثوبَ: بمعنی شرّرہ: یعنی گوشت یا کپڑے کو دھوپ میں یا ہوا کے سامنے رکھنا تا کہ وہ خشک ہو جائے۔ ـ الشیءَ: کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ الإشرارة جمع أَشارِير: پنیر وغیرہ سکھانے کی چٹائی۔ اونٹوں کا بڑا گلہ۔ خشک گوشت کا ٹکڑا۔ الشَرَّان واحد شَرَّانة (ح): مچھر کے مشابہ ایک کیڑا جو چہرہ کے سامنے بغیر کاٹے اڑتا ہے۔ بھنگا۔

۳۔ شَرَّ ـ شَرًّا فلانا: پر عیب لگانا، کی ہتک کرنا، کو غیر اہم سمجھنا، پر اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا۔ شَرَّرَ و أَشَرَّ فلانا: کو لوگوں میں بدنام کرنا۔

۴۔ شَرَّ ـ شَرًّا الماءُ: پانی کا لگا تار قطرہ، قطرہ گرنا اور بہنا۔ ـ الرمادَ: دھول یا راکھ ڈالنا (عام زبان میں)

۵۔ الشِرَّة: تیزی، چستی، غصہ، طیش، حرص، لالچ۔ شِرَّةُ الشباب: جوانی کی چستی۔ الشَرَر و الشَرار واحد شَرَرَة و شَرارَة: [illegible]

الشَرِیر ج أَشِرَّة: سمندر کا ساحل۔

۶۔ شَرْشَرَ الشیءَ: کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھاڑنا، کاٹ کر جھاڑنا۔ ـــ السِکّینَ: چھری کو پتھر پر تیز کرنا۔ ـ تِ الماشیةُ النباتَ: مویشی کا گھاس چرنا۔ الشَرْشَر و الشِرشِر واحد شَرْشَرَة و شِرْشَرة (ن): زمین پر پھیلی ہوئی ایک قسم کی بیل۔ الشِرشِرَة: ہر چیز کا ٹکڑا۔ (ن): ایک قسم کی گھاس۔

۷۔ شَرْشَرَ الماءَ: پانی کو لگا تار ٹپکانا یا قطرہ قطرہ ٹپکانا۔ ـ الماءُ: پانی کا لگا تار قطرہ قطرہ گرنا یا بہنا۔ تَشَرشَرَ منه: سے بکھرنا، متفرق ہونا۔ شواءٌ شَرْشَرٌ: بھنا ہوا گوشت جس سے چربی قطرہ قطرہ ٹپکتی ہو۔ شَرَاشِرُ الذَنَب: دم کے اطراف۔

۸۔ الشَراشِر: نفس، تمام بدن، (کہتے ہیں: القی علیه شَراشِرَهُ: اس نے اس سے اس قدر محبت کی کہ اپنی جان کو اس کی محبت میں قربان کر دیا) بوجھ۔ الشُرشُور ج شَرَاشیر (ح): ایک قسم کی چھوٹی چڑیا۔ اسے ''برقش'' بھی کہتے ہیں۔

○ شَرَّ ـ شَرًّا و شِرَّةً: برا، گناہگار، بدکار، فاسق، بداعمال، بدطینت، آورہ، غلط، کینہ پرور، بغض پرور، کینہ جو، بد باطن، برا چاہنے والا ہونا۔ شَرّ جمع شُرور: برائی، بدی، گناہ، مصیبت، آفت، تباہی، بربادی، بے انصافی، ضرر، نقصن، زخم، بداعمالی، فسق و فجور، بدطینتی، ضرر رسانی، شرارت، عناد، بغض، بد باطنی، کینہ۔ شر جمع اشرار: برا، گنہگار، بدکار، فاسق، بداعمال، بدطینت، مجرم۔ شرّ بطور اسم تفضیل: زیادہ برا وغیرہ۔ هَزَمَهم شرَّ هزیمةٍ: اس نے انہیں شکست فاش دی۔ شَرارَة جمع شرارات: چنگاری۔ شَمْعَةُ الشرارة: سپارک پلگ۔ مِفتَاح الشرارة: اگنیشن کی چابی۔ Ignition key۔ آتش زن (موں کا)۔ شَرَّار: ضوفشاں، ضوبار، شعلہ فشاں۔

شرب: ا۔ شَرِبَ ـ شُرْبًا و شَرْبًا و شِرْبًا و مَشْرَبًا و تَشْرابًا الماءَ: پانی پینا۔ پانی سے سیراب ہونا۔ ـ شَرَبًا: پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا (ضد)۔ کہتے ہیں: اکل علیه الدهرُ و شَرِبَ: وہ ہلاک ہوگیا اور کہتے ہیں: اکل فلانٌ مالی و شَرِبَهُ: فلاں میرا مال کھا پی گیا، یعنی فنا کر دیا۔ شَرَّبَ هُ: کو پانی پلانا۔ ـــ قصبُ الزرع: کھیتی کے ڈنٹھل کا سیراب ہونا۔ شَارَبَ مُشَارَبَةً و شِرَابًا هُ: کے ساتھ پینا۔ أَشرَبَ هُ: کو پلانا۔ ـــ الرجُلُ: پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ضد)۔ تَشَرَّب الثوبُ العرقَ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کپڑے کا پسینہ کو چوسنا۔ تَشَارَبَا: ایک دوسرے کے ساتھ پینا۔ اِشْرَأَبَّ للشیء و اِلیه: گردن لمبی کر کے کسی کی طرف دیکھنا۔ اس سے اسم الشُرَأْبِيْبَة ہے۔ (اِطْمَأَنَّ سے طُمَأْنِيْنه کی طرح) الشَرْب (مص) جمع شارب (فا) الشِرْب (مص) ج أَشْراب: پینے کا پانی، پینے کا وقت، پانی کا حصہ، گھاٹ۔ الشَرْبَة: شرب کا اسم مرۃ، ایک بار پینا جو یکبارگی پیا جائے، برتن جس سے پیا جاتا ہے۔ (طب): جلاب۔ مسہل۔ الشُرْبَة: سیراب ہونے کے اندازہ کا پانی۔ الشَرَبَة ج شَرَب و شَرَبَات: زیادہ پینا۔ الشَرَاب ج أَشْرِبَة: ہر پینے کی چیز۔ الشَرَابِيّ: سقہ، بہشتی۔ الشُرَبَة و الشَرَّاب و الشِرِّيب: بہت پینے والا، بسیار نوش، شراب کا دلدادہ۔ الشَرَّابة: الشَرَّاب کا مؤنث۔ الشارب جمع شَرْب (فا): (جیسے راکب ورَکْب)۔ الشارِبَة ج شاربات و شوارب: الشارب کا مؤنث۔ دریا کے کنارے رہائش پذیر لوگ۔ الشوارب (ع ا): حلق کی رگیں، گردن میں پانی کی گزرگاہیں۔ الشُرُوب: پینے والے۔ الشَرُوب: بہت پینے والا، پینے کا یا شراب کا دلدادہ۔ ماءٌ شَرُوب: پینے کا پانی، پینے کے قابل پانی۔ الشرِيب: بہت پینے والا، پینے میں شریک شخص، جو آپ کے ساتھ اپنے اونٹوں کو گھاٹ پر لائے۔ جو آپ کے ساتھ پینے کی چیز طلب کرے یا جسے آپ کے ساتھ پلایا جائے۔ ماءٌ شرِيب: پینے کے لائق پانی۔ المَشْرَب جمع مشارب: پانی، پینے کی جگہ، آج کل خواہش نفس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں: وَافَقَ الامرُ مَشْرَبَهُ: معاملہ اس کی خواہش کے مطابق ہوا۔ المَشْرَبَة و المَشْرُبَة ج مَشَارِب (ز): نرم اور ہمیشہ سرسبز رہنے والی زمین، پینے پلانے کا کمرہ، پینے کی جگہ۔ کہتے ہیں: طعامٌ ذو مَشْرَبَةٍ: بہت پیاس لگانے والا اور پانی پلانے والا کھانا۔ المِشْرَبَة ج مَشَارب: پانی پینے کا برتن۔ المَشْرُوب (مفع): ہر وہ شے جو پی جائے، ہر پینے کی چیز۔

۲۔ شَرِبَ ـ شَرَبًا: پیاسا ہونا، پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ أَشْرَبَ الرجُلُ: پیاسا ہونا، پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ الشَرَبَة ج شَرَب و شَرَبَات: گرمی کی شدت، پیاس۔

۳۔ شَرِبَ ـ شُرْبًا و شَرْبًا و شِرْبًا و مَشْرَبًا و تَشْرَابًا السنبلُ الدقيقَ: کھیتی کی بالیوں میں دانوں کا سخت ہونا اور پکنے کے قریب ہونا۔ شَرَّبَ السنبلُ الدقيقَ: کھیتی کی بالیوں میں گودا آنا۔ أَشْرَبَ و أُشْرِبَ الزرعُ: کھیتی کی بالیوں میں گودا آنا۔

۴۔ شَرِبَ ـ شَرَبًا به: کسی پر جھوٹ بولنا۔ أَشْرَبَ به: کسی پر جھوٹ بولنا۔ کہتے ہیں: أَشْرَبَنِي مالم أَشْرب: اس نے میرے بارے میں ایسی چیز کا دعوی کیا جس کو میں نے نہیں کیا۔

۵۔ شَرَبَ ـ شَرْبًا الكلامَ: کلام سمجھنا۔

۶۔ شَرَّبَ القربةَ: نئی مشک پر مٹی اور پانی ملنا تا کہ اس میں پانی خوشگوار رہے۔ أَشْرَبَ اللونَ: کپڑے کو گہرا رنگنا۔ ــ الثوبَ حمرةً: کپڑے کو سرخ رنگ رنگنا۔ کہتے ہیں: أُشْرِبَ حُبَّ فلان: اس کے دل میں فلاں کی محبت بیٹھ گئی۔ اِسْتَشْرَبَ لونُهُ: رنگ کا تیز اور گہرا ہونا۔ الشُرْبَة: چہرہ کی سرخی۔ کہتے ہیں: فی وجهه شُرْبَةٌ من حُمْرَةٍ: اس کے چہرے پر سرخی ہے۔

۷۔ أَشْرَبَ الإبلَ: اونٹ باندھنا۔

۸۔ الشَرَبَّة: گھاس والی زمین جس میں درخت نہ ہوں، وادی کا کنارہ، راستہ، طریقہ۔ کہتے ہیں: ماز ال فلانٌ علی شَرَبَّةٍ واحدة: وہ ابھی تک ایک ہی طریقہ پر ہے۔ الشَرَّابة ج شَرَارِيب: ٹوپی وغیرہ کا پھندنا۔ الشارِب: جانوروں کی کمزوری۔ شارِبُ الرجُلِ: مونچھ، دونوں طرف کا لحاظ کرتے ہوئے تثنیہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں: شاربَا الرجُل: آدمی کی مونچھیں اور اطراف و اجزاء کا اعتبار کرتے ہوئے جمع بھی لاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں: شوارب الرجل۔

۹۔ الشُرَابِت: سخت ہتھیلی والا۔ (ح): شیر۔

○ شَرِبَ ـ شُرْبًا و مَشْرَبًا ه: (کچھ) پینا، کی چسکی لگانا۔ شرب فی حبه: کا جام صحت نوش کرنا۔ شَرَّبَ ہ ه: کو پینے کے لئے کچھ دینا، کو کچھ پلانا۔ ــ ه ب: کو سے شرابور کرنا، بھگونا، تر کرنا، سراب کرنا، کے رنگ میں رنگ دینا۔ شارب ہ: کے پاس بیٹھے ہوئے، کی صحبت میں پینا۔ أَشْرَبَ ہ ه: کو پینے کے لئے کچھ دینا، کو کچھ پلانا ــ ہ ه/ب: کو سے شرابور کرنا، بھگونا، تر کرنا، سیراب کرنا ــ ہ ه: کے رنگ میں رنگ دینا، کے کچھ خوب ذہن نشین کرنا، دل نشین کرنا، کو کا رنگ چڑھانا، کے رگ و پے میں کچھ ساری کرنا، کے دل میں کچھ ڈالنا۔ أُشْرِبَ ه: سے پُر ہونا، سے بھرا ہوا ہونا، کے رنگ میں رنگا ہوا، کچھ رگ و پے میں جاری و ساری ہونا، دل میں ہونا، میں بھیگا ہونا، کچھ ڈالا یا انڈیلا ہوا ہونا، زندگی کی روح پھونکا ہوا ہونا، سے مغلوب ہونا، سرایت شدہ ہونا۔ أُشْرِبَه مالم يُشْرِبُ: سے کوئی بات غلط منسوب کرنا۔ تَشَرَّبَ ه: کو بھگونا، تر کرنا، جذب کرنا، چوس لینا، مدغم کرنا، کو قبول کرنا، اخذ کرنا۔ ــ ه ب: میں کچھ سرایت کیا ہوا ہونا، کے رنگ میں رنگا ہوا ہونا، کے رگ و پے میں ساری ہونا، کی روح میں پھونکا ہوا ہونا، میں انڈیلا یا ڈالا ہوا ہونا۔ ــ ب: سے بھرا ہوا، پُر ہونا۔ شُرب: پینا، مشروب، جذب۔ شُرْبَة: مشروب، گھونٹ، چسکی، نگلنا، ہڑپ کرنا، (دوا کی یا پینے والی دوا کی) خوراک۔ شراب: مشروب، شراب، پھل کا رس، پھل کا شربت، شربت۔ شراب التُفّاح: سیب کا جوس، سیب کی شراب (cider)۔ شراب البرتقل: مالٹوں کے رس کا مشروب (orangeade) شَرَّاب: بلانوش، بڑا شرابی، مے نوش۔ شَرِيب: پینے کے قابل، نوشیدنی۔ شِرِّيب: بلانوش، بڑا شرابی، مے نوش۔ شَرّابَة و شُرّابه جمع شراریب: پھندنا، جھالر، گچھا، لچھا، خواتین کے تراشے ہوئے بال (a style of haircut)، ایک سدا بہار جھاڑی (ہولی)۔ مَشْرَب: پینا (کھانے کے مقابلہ میں)۔ جمع مشارب: پینے کی جگہ، پانی کا سوراخ، ناند (پینے کے پانی والا) پینے کے پانی کا ذخیرہ یا چشمہ، طعام خانہ، ریستوران (restaurant)، ہوٹل کی شراب گاہ (بار bar)؛ رغبت، میلان، ذوق، تحریک، مدرسہ (فکر کا)۔ مَشْرَبَة جمع مشَارِب: پینے کی جگہ، پانی کا سوراخ، پانی کا ناند، پینے کے پانی کا ذخیرہ، چشمہ۔ مَشْرِبِة و مَشْرَبِية: چوبی جھروکہ، کھپریلی چھت کا بالا خانہ۔ مَشْرَبِية: ایک قسم کا پینے کا برتن، منقش مرتبان، گلدان۔ مشروبات روحیة: الکحلی مشروبات۔ شوربه و شوربا و شُرْبَة: یخنی، آش۔ شُرّاب جمع شُرّابات: جراب، موزہ۔

۱۰۔ شَرْبَقَ الثوبَ: کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

۱۱۔ الشَرْبين (ن): چیڑھ کا درخت۔

شرث: شَرِثَ ـ شَرَثًا و اِنْشَرَثَتِ يَدُهُ: پھٹے ہوئے ہاتھ والا ہونا۔ ــ الرجُلُ: کی ہتھیلی کی پشت کا سردی سے موٹا ہو کر پھٹ جانا۔ صفت: شَرِث۔ ــ ت النعلُ: جوتے کا تڑخنا۔ الشَرْث: ہر پرانی ، بوسیدہ چیز۔ الشَرْثَة: پرانا جوتا۔ الشَرِث من السيوف والأَسنَّة: تیز تلوار اور بھالا۔

شرج: ا۔ شَرَجَ ـ شَرْجًا الشيءَ: کو جمع کرنا۔ ــ الشراب بالماء: شراب میں پانی ملانا۔ ــ الحجارةَ: پتھروں کو ایک دوسرے سے ملا کر تہہ بتہہ کرنا۔ ــ الخريطةَ: تھیلے کے کناروں کو ملا کر باندھنا۔ شَرَّجَ الحجارةَ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پتھروں کوایک دوسرے سے ملا کر تہہ بتہہ کرنا۔ ـــــ الخریطة: تھیلے کے کناروں کو ملا کر باندھنا۔ ـــــ الثوبَ: کپڑے کو دور دور ٹانکے لگا کر سینا۔ عوام سَرَّجَ بولتے ہیں۔ شَرِجَ اللحمُ: گوشت میں چربی ملنا۔ أَشْرَجَ الحجارةَ: پتھروں کوایک دوسرے سے ملا کر تہ بتہ کرنا۔ ـ الخریطةَ: تھیلے کے کناروں کو ملا کر باندھنا۔ ـ صَدْرَہ علی کذا: کوئی بات دل میں چھپانا۔ تَشَرَّج الشیءُ فی الشیء: ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا، گھل مل جانا۔ الشَرَج ج أَشْـــرَاج: کاج۔ یہ اس معنی میں اسم جنس ہے۔ الشَرِیجَة ج شَرَائِج: کھجور کے پتوں کا بنا ہوا گون۔ بانس کا ٹھاٹھر جو دوکان کے دروازے پر لگایا جائے۔ التَشْرِیج: دور دور ٹانکوں کی سلائی۔ عوام اسے تریج کہتے ہیں۔

۲۔ شَارَجَ هُ: کے مشابہ ہونا۔ اسی سے ہے: فتیات مُشارجات: ہم عمر لڑکیاں۔ تَشَارَجَا: باہم مشابہ ہونا، ہم شکل ہونا۔ الشَرْج (مص) ج شِرَاج و شُرُوج: نوع۔ کہتے ہیں: هذا شَرْجُ ذاك: یہ اس کی مثل ہے۔ هُما شرجٌ واحِد: وہ دونوں ایک نوع کے ہیں۔ الشَرِیج ج شَرَائِج: مانند، مثل۔ کہتے ہیں: هو شریجُه: وہ اسکی مثیل ہے۔

۳۔ شَرَجَ ـ شَرْجًا: جھوٹ بولنا۔

۴۔ إِنْشَرَجَ الشیءُ: چیز کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہونا۔ الشَرْج جمع شِرَاج و شُرُوج: فرقہ، کہتے ہیں: اصبحوا فی الأمر شَرْجَین: وہ اس معاملہ میں دو فرقے ہو گئے۔ دو دو فرقوں میں بٹ گئے۔ الشَرَج جمع أَشْراج: کمان کی ترخن۔ الشَرِیج جمع شَرَائج: لکڑی کے دو مساوی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ وہ لکڑی جس کی دو کمانیں بنائی جائیں۔ قَوْسٌ شَرِیج: پھٹی ہوئی کمان۔

۵۔ الشَرْج جمع شِرَاج و شُرُوج: نرم زمین کی طرف پانی بہنے کی نالی۔ الشَرْجَة: نرم زمین کی طرف پانی بہنے کی نالی، وہ گڑھا جس میں کھال بچھا کر اونٹوں کو پانی پلایا جائے۔ الشَرَج جمع اشراج: وادی کی چوڑی جگہ۔ الشَرِیجَة جمع شرائج: تیر کے پر کو جوڑنے کا پٹھا۔ الشِیْرِج: تلوں کا تیل۔ عوام اسے سیرج کہتے ہیں۔ (فارسی لفظ)۔ سهمٌ مُشَرَّج: پچھے سے جڑے ہوئے پروالا تیر۔

۶۔ الشَرْجَب (ح): عمدہ گھوڑا۔ لمبی ٹانگوں والا گھوڑا۔ الشَرْجَبَان و الشُرجبَان: ایک قسم کا بینگن سے مشابہ پودا جو رنگائی کے کام آتا ہے۔

○ شَرَج جمع أَشْرَاج: روزن، سوراخ، چھلا، کاج، تکمہ۔ مقعد، دبر۔ شَرَجی: مقعدی، دبری۔

شرح: ۱۔ شَرَحَ ـ شَرْحًا اللحمَ: گوشت کے لمبے لمبے ٹکڑے کاٹنا۔ شَرَّحَ الشیءَ: کو الگ الگ حصوں میں کاٹنا۔ ـــــ قطعةَ اللحمِ: گوشت کے ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے پارچوں میں کاٹنا۔ الشَرْحَة: گوشت کا ٹکڑا۔ الشَرِیح والشریة جمع شَرَائِح: گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لمبا ٹکڑا۔ عِلمُ التشریح (طب): لاش کی چیر پھاڑ، علم تشریح، تشریح اعضاء۔

۲۔ شَرَحَ ـ شَرْحًا المسألَةَ: مسئلہ کے گہرے مطالب کو کھولنا، بیان کرنا۔ ـــــ الکلامَ: کلام سمجھانا۔ ـــــ الشیءَ: چیز یا بات کو کھولنا، کشادہ کرنا۔ ـــــ إلی الشیء: میں رغبت کا اظہار کرنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ یشرح إلی الدنیا: یعنی وہ دنیا میں اپنی رغبت کا اظہار کرتا ہے۔ ـــــ صَدْرَہ للشیء و بالشیء: پر خوش ہونا۔ شَرَّحَ الشیءَ: کو کھولنا اور ظاہر کرنا۔ اسی سے ہے: شَرَّحَ التینَ تشریحًا: انجیر کو پھاڑ کر سوکھنے کے لئے دھوپ میں رکھنا۔ أَشْرَحَ صدرَہ: شَرَحَ صَدْرَہ کے معنی میں ہے۔ إِنْشَرَحَ: کشادہ ہونا۔ کہتے ہیں: شرح اللّٰه صدرَہ لقبول الخیر فانشرح: اللہ تعالیٰ نے اس کے سینہ کو خیر قبول کرنے کے لئے کشادہ کر دیا اور وہ کشادہ ہو گیا۔ الشَرْح عند المُؤَلِّفِین: تفصیل سے سمجھانا، تفسیر، تشریح، توضیح، وضاحت، بیان۔ الإنشراح: خوشی، شادمانی، مسرت۔

۳۔ شَرَحَ ـ شَرْحًا الشیءَ: کی حفاظت کرنا۔

○ شَرَحَ خاطِرَہ: کو خوش کرنا۔ شَرِیحَة جمع شرائح: خوردبین کا شیشہ۔ مَشْرَحَة: آپریشن کا کمرہ، آپریشن کی میز، لاش کے معائنہ کا کمرہ۔ شارح: مفسر، تشریح کرنے والا، توضیح کرنے والا۔ مُشَرِّح: ماہر تشریح الاعضاء، چیر پھاڑ کا ماہر۔

شرخ: ۱۔ شَرَخَ ـ شَرْخًا و شُرُوخًا نابُ البعیر: اونٹ کا دانت نکلنا۔ ـــــ شُرُوخًا الصبیُّ: بچہ کا جوان ہونا صفت شارخ جمع شَرْخ جیسے صَاحِب و صَحْب۔ الشَرْخ (مص) ج شُرُوخ: اصل، نوجوانی۔ کہتے ہیں: هو فی شرخ الشباب: وہ نوجوانی کی عمر میں ہے، اول امر، رگ، چیز کا ابھرا ہوا حصہ۔ شَرْخا الرَحْل: کجاوہ کا اگلا اور پچھلا حصہ۔ کہتے ہیں: فلانٌ لا یزال بین شَرْخَیْ رَحْلِه: وہ ہمیشہ سفر ہی میں رہتا ہے۔

۲۔ ال[illegible] جمع شروخ: ہم جولی،

کہتے ہیں: هو شَرْخِی: وہ میرا ہم عمر ہے: هما شَرْخان: وہ دونوں ہم جولی ہیں یا ہم عمر ہیں، اونٹ کے ہر سال کے بچے۔

۳۔ الشُرْخُوب ج شَرَاخِیب (ع ا): ریڑھ کی ہڈی۔

○ شَرْخ: عنفوان شباب، جوانی، شباب۔ شَرَخَ ـ شرخًا: درز پڑنا، بال آنا، تڑقنا، کرچ اڑنا۔ شرخ جمع شروخ: درز، دراڑ، شگاف، بال ٹوٹنا۔

شرد: ۱۔ شَرَدَ ـ شَرْدًا و شُرُودًا و شِرَادًا و شِرادًا: بدکنا۔ ـــــ علی اللّٰه: اللہ کی اطاعت سے نکلنا صفت: شارِد ج شَرَد و شُرُود جمع شُرُد م شارِدة جمع شَوَارِد و شُرَّد۔ شَرَّدَہٗ: کو دھتکارنا، ڈرانا۔ کہتے ہیں: فلانٌ مُطَرَّدٌ مُشَرَّد: اسی طرح کہتے ہیں: فلان طرید شرید: وہ دھتکارا ہوا ہے۔ ـــــ شملَهُم: جمعیت کو متفرق کر دینا۔ ـــــ بفلان: کے عیب لوگوں کو سنانا۔ أَشْرَدَہٗ: کو دھتکارنا، نکال دینا، بے گھر کرنا۔ تَشَرَّد القومُ: لوگوں کا چلا جانا۔ الشَرْد: وہ بارش جسے ہوا اڑا کر گھر کے اندر لے جائے (عام لوگوں کی زبان میں)۔ شوارد اللغة: نوادر کلمات اور غیر مانوس الفاظ۔ الشرید: دھتکارا ہوا، ہکالا ہوا۔ الشَرِیدَة ج شَرَائِد: شرید کا مونث، چیز کا بقیہ۔

۲۔ الشِرْداح: موٹا نرم پتلے گوشت والا۔

○ شَرَدَ ـ شِرادًا و شُرُودًا: (گھوڑے کا) بھاگ نکلنا؛ فرار ہونا، بھاگنا، بھاگ جانا، نو دو گیارہ ہو جانا، مارے مارے پھرنا، ادھر ادھر پھرنا، منہ اٹھاتے پھرنا، گم کردہ راہ ہو جانا، بھٹکتے پھرنا، (خیالات کا) بٹا ہوا ہونا۔ شرد ذِهنُهُ: خیالات میں کھو جانا، گم ہو جانا، محو ہو جانا، مستغرق ہونا اور پراگندہ دماغ ہونا۔ شرد به الفکرُ: وہ خیالات میں گم ہے۔ شَرَّده: کوڑا کر بھگا دینا، باہر نکال دینا، ڈرا دینا۔ تشرّد: آوارہ گردی کرتے پھرنا، بے خانماں زندگی بسر کرنا۔ شُرُودُ الفِکر: پراگندگی افکار، استغراق۔ شرید: بھگوڑا، جلاوطن، تارک وطن، بے خانماں، نکالا ہوا، آوارہ گرد، خدائی خوار، کوچہ گرد، ہرزہ گرد، مارا مارا پھرنے والا، خانہ بدوش۔ تشرید: نکالنا، اخراج، دیس نکالا، جلا وطنی، بے دخلی، خانہ بدوشی کی زندگی، آوارہ گردی، بے خانماں ہونا۔ حیاة التشرید: بے خانماں زندگی، آوارہ گردی۔ تَشَرُّد: آوارہ گردی، خانہ بدوشی کی زندگی۔ شوارد اللغة: زبان کی بے قاعدگیاں یا خلاف قیاس باتیں۔ شارد

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

النظر (النظرات): خلا میں گھورنے والا، خالی نظر۔ لا تفوته شارِدَة و لا واردة: اس سے کچھ نہیں بچتا، وہ کچھ بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ مَشَرَّد: بھگوڑا، پناہ گیر، بے خانماں، پراگندہ۔ مُشَرَّدُ البال: بوکھلایا ہوا، پریشان، گھبرایا ہوا، مُتَشَرِّد: بے گھر، آوارہ گرد، بے خانماں، خانہ بدوش، من چلا۔

○ شرذ: شَرَّذَ الجمعَ: (بھیڑ، مجمع) کو متفرق کرنا۔ الشِرْذِمَة جمع شَرَاذِم و شَرَاذِيم: لوگوں کی چھوٹی جماعت۔ ثیابُ شَرَاذِم: پھٹے ہوئے کپڑے۔

شرز: ۱۔ شَرَزَ ۔ شَرْزاً هُ: کو کاٹنا، صفت: شارِز جمع شُرَّاز۔ شَرَّزَه: کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الشيراز جمع شَوَارِيز و شَرَارِيز: پانی نکلا ہوا دہی۔ عوام اسے اللبنة المقطوعة کہتے ہیں۔

۲۔ شَرَّزَهُ: کو ایذا دینا، گالی دینا۔ شَارَزَ: بدخلق ہونا۔ ۔ الرجُلَ: سے جھگڑنا، دشمنی کرنا۔ أَشْرَزَهُ: کو ہلاکت اور سختی میں ڈالنا۔ الشَرْز (مص): قوت، موٹائی، سختی، موٹا، سخت جیسے: عذَّبَهُ الله عذابا شَرْزًا: اللہ تعالیٰ نے اسے سخت عذاب دیا۔ الشَرَزة: اسم مرة، ہلاکت اور سختی۔ الشُرَّاز: وہ جو لوگوں کو سخت عذاب دیں۔ المُشارِز (فا): سخت، بدخلق۔ المُشَرَّز: باہم بندھا ہوا، ملائے ہوئے کناروں والا۔

شرس: ۱۔ شَرِسَ ۔ شَرَاسَةً و شَرَسًا و شَرِيسًا: بدخلق ہونا صفت: شَرِس و شَرِيس و أَشْرَس۔ شَرَسَ ۔ شَرْسًا هُ: کو سخت کلامی سے جلانا۔ شَارَسَ مُشَارَسَةً و شِرَاسًا هُ: کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا۔ تَشَارَسَ القَوْمُ: آپس میں دشمنی رکھنا۔ الشَرْساء: أَشْرَس کا مؤنث۔ الشَرِيس (مص): بدخلقی، جھگڑالو پن۔ (کہتے ہیں: قد لان شَرِيسُهُ: یعنی اس کی بدمزاجی اور جھگڑالو پن کچھ نرم پڑ گیا) بدخلق، بدمزاج، سخت جھگڑالو۔ کہتے ہیں: هو ذو شريس: وہ بدخلق اور سخت جھگڑالو ہے اور له نفسٌ شريسة: وہ جھگڑالو ذہن والا ہے۔

۲۔ شَرِس ۔ شَرَسًا ت الماشيةُ: مویشی کا کانٹے دار چھوٹے پودے چرتے رہنا۔ شَرَسَ ۔ شَرَاسَةً تِ الماشيةُ: مویشی کا خوب چرنا۔ الشَرَس (مص) والشَرْس والشِرْس: چھوٹے کانٹے دار پودے۔ شَرِيس الأَكل: بہت کھانے والا۔ أَرْضٌ شَرِيسَةٌ و مُشْرِسَةٌ: چھوٹے چھوٹے کانٹے دار پودوں کی کثرت والی زمین۔

۳۔ شَرَسَ ۔ شَرْسًا الناقةَ: اونٹنی کو مہار سے کھینچنا۔

۴۔ الشَرْساء: سفید پتلا بادل۔ الشِرَاس: سریش۔

الشَرِيس (ح): شیر۔

۵۔ شَرسَفَ شَرسَفَةً: بدخلق ہونا۔ الشُرْسُوف ج شَرَاسِيف (ع ا): پیٹ کے اوپر پسلی کا کنارہ، بندھا ہوا اونٹ، سختی، مصیبت۔

○ شردق: تَشَرْدَقَ: غلط طور پر نوالہ نگلنا، گلا گھٹ کر مرجانا۔

○ شرذم: تَشَرذَمَ: دندانے پڑ جانا، نوکیلے کونوں والا ہونا، کٹا پھٹا ہونا۔

○ شَرِسَ ۔ شَرَسًا و شَرَاسَةً: آوارہ، برا، بغض پرور، کینہ جو، بد باطن، شرارتی، شرانگیز، بدمزاج، تند خو، کم آمیز، جھگڑالو، چڑچڑا، تنک مزاج ہونا۔ شَرِس و شَرِيس: آوارہ، برا، بغض پرور، کینہ جو، شرارتی، شرانگیز، بدمزاج، تندخو، کم آمیز، جھگڑالو، چڑچڑا، تنک مزاج، جنگلی، ظالم، سفاک، سخت غضبناک، غضبناک۔ شَرَاسة و شَرَس: بداعمالی، شرارت، ضرر رسائی، بدطینتی، فسق و فجور، برائی، عناد، بغض، بد باطنی، کینہ، کمینگی، گھٹیاپن، رذالت، کم آمیزی، تندخوئی، چڑچڑاپن۔

شرش: الشَرْشَفُ جمع شَرَاشِف: پلنگ پوش (فارسی لفظ)(bed sheet)۔

شرص: شَرَصَ ۔ شَرْصًا هُ: کو کھینچنا۔ ۔ و شَرَّصَهُ بكلامِه: کو گالی دینا۔ الشَرْص (مص): سختی، کھردراپن، اکھڑپن۔ الشِرص ج شِرَاص و شِرَصَة: کنپٹی کے پاس بال گرنے کی جگہ۔

○ شَرَّشَ: جڑ پکڑنا۔ شِرش جمع شُرُوش: جڑ۔ شِرش اللبن: دودھ یا دہی کا پانی۔ شَرْشِير: جنگلی بطخ، مرغابی۔ شَرَاشِر: روح، خود، ذات، طبیعت (شخص کی)۔

شرط: ۱۔ شَرَطَ ۔ شَرطًا عليه في بيع و نحوه: سے پر شرط لگانا۔ شَارَطَهُ: ایک دوسرے سے شرط باندھنا۔ سے کسی معاملہ میں کچھ کرنے کا عہد کرنا۔ تَشَرَّطَ: خود پر خواہ مخواہ قیود لگانا۔ ۔ في العمل: کام تندہی سے کرنا۔ تَشَارَطَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگانا۔ تَشَارَطُوا على الشيء: پر قائم رہنا، پر عمل کرنا۔ إشْتَرَطَ له كذا: کے لئے کوئی بات لازمی قرار دینا۔ الشَرْط (مص) جمع شُرُوط: پابندی۔ (الشرطُ أَمْلَكُ عليك أم لك: یعنی شرط شرط لگانے والے کو شرط کی پابندی کا اختیار دیتی ہے، خواہ اس کے حق میں ہو یا خلاف۔ عند النحاة: شرط: کسی کام کے دوسرے کام کے ساتھ وقوع کی ترتیب: جیسے إن زرتني زرتك: اگر تم مجھے ملنے آؤ گے تو میں بھی تمہیں ملنے آؤں گا۔ اور "ادرس تحفظ" پڑھو تاکہ یاد رکھ سکو۔ ـــــ الشُرْطَة: شرط۔ الشَرِيْطَة ج شرائط: شرط۔

۲۔ شَرَطَ ۔ شَرْطًا الجلدَ: جلد میں نشتر لگانا۔ شَرَّطَ الجلدَ: جلد میں نشتر لگانا۔ الشريط جمع شُرُط: مشروط۔ الشَرِيطَة جمع شَرَائِط: پھٹے ہوئے کان والا اونٹ۔ المِشْرَط و المِشْرَاط و المِشْرَطة ج مَشَارِط و مَشَارِيط: نشتر۔

۳۔ شَرِطَ ۔ شَرَطًا: کسی بڑے کام میں پڑنا۔ أَشْرَطَ نَفْسَهُ أو مالَهُ في امر: کسی امر میں جان و مال کو پیش کرنا۔ ۔ الإبلَ: فروخت کرنے کے لئے اونٹ کو نشان لگا کر علیحدہ کرنا۔ ۔ نفسَهُ لكذا: کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا، آمادہ ہونا۔ ـــــ إليه رسولاً: کی طرف جلدی سے قاصد بھیجنا۔ الشَرَط (مص) ج أشراط: علامت، چیز کا شروع۔ الشُرَط: میدان کارزار میں سب سے پہلے اترنے اور جان کی بازی لگانے والا فوجی دستہ۔ الشُرْطَه و الشُرْطِي۔ شُرَط کا واحد: پولس والا۔

۴۔ شَرَّطَ الشيءَ: کو باندھنا، مضبوط کرنا۔ الشريط جمع شُرُط: کھجور کی بٹی ہوئی رسی، تار، جیسے: شريط الكهرباء: بجلی کا تار۔ شريط التلفراف: ٹیلیگراف کا تار وغیرہ۔ الشريطة جمع شرائط: ربن (بالوں کو باندھنے کے لئے) ڈوری، پتلا فیتہ، لڑی و لیس وغیرہ جن سے کپڑوں کی آرائش کی جاتی ہے۔ الشِرطة ج شَرَاطِيط: کپڑے کا ٹکڑا۔

۵۔ أَشْرَطَ بالشيء و فيه: کو ہلکا سمجھنا اور شرط لگانا۔ إسْتَشْرَطَ المالُ: مال کا درستی کے بعد خراب ہونا۔ الشَرْط جمع أَشْرَاط: گھٹیا، کمینہ، کنجوس۔ الشَرَط جمع أشْرَاط: گھٹیا حقیر مال، چھوٹے چھوٹے مال۔ الأشراط: رذیل لوگ، اشراف (ضد)۔ شُرطَة كل شيء: عمدہ و بہترین چیز۔ أَشْرَطُ الناس: رذیل ترین لوگ۔

۶۔ الشَرِيط ج شُرُط: عورت کی خوشبو وغیرہ رکھنے کی ڈبیہ۔

۷۔ شَرْطَنَهُ: کو ترقی دے کر پادری بنانا، آج کل یوں کہا جاتا ہے: (كَهَّنَهُ و سامه كاهِنًا)۔ الشَرْطونية: پادری بنانا Ordination۔

○ شَرَطَ ۔ شرطاً ه: کو چیرنا، پھاڑنا، کو چیر دینا، کو چھیلنا، چھیل کر اتارنا، کریدنا، چاک کرنا۔ ۔ على ه: پر شرط یا فرض کے طور پر کچھ عائد کرنا، کے لئے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کچھ مشروط کرنا۔ ـــ ہ: کی صاف صاف شرط کرنا۔
شَرَّطَ ہ: کو چیر پھاڑ کر چیتھڑے چیتھڑے یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کو چیرا دینا، چھیلنا، کریدنا۔ شَــارَطَ: باہمی شرائط طے کرنا، ایک معاہدہ کرنا۔ ـــ ہ: کے ساتھ شرط لگانا، بدنا یا باندھنا۔ تَشَـرَّطَ: سخت شرطیں عائد کرنا۔ تَشَرَّطَ فی عمله: اپنے کام میں توجہ صرف کرنا، اپنا کام محنت سے سرانجام دینا۔ اِشْتَرَطَ علی ہ: پر کچھ شرط یا فرض کے طور پر عائد کرنا، پر کچھ مشروط کرنا۔ ـــ ہ: کی صاف صاف شرط کرنا۔ اُشْتُرِطَ لِ: کے لئے بنیادی یا اولین شرط ہونا۔ شَرْط جمع شروط: چیر (کھال میں) لمبا کٹ، شگاف، شرط، شرط لازم، (قانون کی) دفعہ (معاہدہ کی)، شق (تحدیدی) شرط۔ شَرْطًا أن، بشرط، علی شرطِ أن، علی شَرِيطةِ: اس شرط پر کہ من دون شرطٍ، (بدون) شرط: بلا شرط۔ بلا شرطٍ أو قيد: بلا شرط، غیر مشروط۔ شرط الخيار: (کسی ٹھیکہ، معاہدہ، تجارتی معاملہ، ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے کے حق کی شق)۔ اشراط الساعة: علامات قیامت۔ شَرْطِی: مشروط۔ جملہ شرطية: شرطیہ جملہ۔ شَرْطِية: ٹھیکہ، معاہدہ۔ شَرْطة جمع شُرَط: جنبش، لکیر، نشانِ الحاق (hyphen)، ڈیش (dash)۔ شُرْطَة: پولیس، پولیس والے، سپاہی۔ دار الشُرطة: پولس سٹیشن، تھانہ۔ تقریر الشرطة: پولیس رپورٹ۔ شُرْطِي و شُرَطي جمع شرطيون: پولیس مین، آفیسر۔ شَرِيط جمع شَرائِط و أشْرِطة: بینڈ، ربن، ٹیپ، ڈوری، رسی، سُتلی، طناب، لائن، تسمہ، فیتہ، بٹا ہوا ڈورا، گندھے ہوئے بال، ٹیکری (chevron)، فیتی، فیتہ، تمغہ کا ربن، سروس ربن، (ریلوے) لائن، فلم کی پٹی film strip فلم۔ شريط سينمائي: (میکنیک) ٹیپ۔ شريط مُصَغَّر: مائیکروفلم۔ شريط القياس: ماپ کی ٹیپ۔ شريط ناطِق جمع شرائط ناطِقة: ساؤنڈ فلم، بولتی فلم، ساؤنڈ ٹریک، میکنیٹک (مقناطیسی) ٹیپ۔ شَرِيط النار: فیوز (fuse) دودة الشريط: tapeworm مُشْرِط: پروگرام۔ مِشْرَط جمع مَشارط: نشتر۔ اشتراط جمع اشتراطات: شرط۔

شرع: ۱۔ شَرَعَ - شَرْعًا للقوم: قوم کے لئے قانون بنانا۔ ـــ لهم الطريق: کی رہنمائی کے لئے راستہ پر چلنا یا اس کو ظاہر کرنا۔ کہتے ہیں: شَرَعَ اللّٰهُ لنا كذا بشرعه: اللہ تعالی نے اپنی شرع سے یہ ظاہر اور واضح کیا۔ ـــ الرجلُ: حق کو ظاہر کرنا، باطل کو مٹانا۔ شَرَعَ شَرْعًا و شُرُوعًا الطريقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ شَرَّعَ و أَشْرَعَ الطريقَ: راستہ کو ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ اِشْتَرَعَ الشَرِيعةَ: قانون بنانا۔ الشَّرْع (مص): شریعت۔ کہتے ہیں: شَرْعُكَ ما بلَّغكَ المحلَّ: تمہیں اتنا زادِ راہ کافی ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے۔ مراد آسان پر قناعت کرنی چاہئے۔ ـــ والشِرع و الشَرَع: مثل، برابر۔ کہتے ہیں: الناس في هذا شرعٌ واحدٌ: لوگ اس میں برابر ہیں۔ هم في هذا شرعٌ کا بھی یہی معنی ہے۔ دو ہوں تو کہیں گے: هما شِرعان وہ دونوں برابر ہیں۔ الشِرْعة ج شِرَع و شَرْع و شِرَع و شِراع: شریعت، عادت، مثل۔ کہتے ہیں: هذه شِرعة هذه: یہ اس جیسی ہی ہے۔ الشَرِيعة جمع شَرائِع: اسلامی قانون، خدائی احکام، ضابطہ۔ الشَرْعِيّ: شرع کے مطابق، شرع پر منطبق (کوئی عمل وغیرہ)۔ الإبن الشرعي: شرعی بیٹا جسے کوئی شخص اپنا بنالے اور اسے اپنے اصل بیٹے کا درجہ دے۔ المَشْرُوع: جائز، جسے شرع جائز قرار دے۔

۲۔ شَرَعَ - شَرْعًا البيتُ: گھر کا لب سڑک ہونا۔ ـــ البابُ إلى الطريق: دروازہ کو راستہ کی جانب کھولنا۔ ـــ شَرْعًا و شُرُوعًا فلانٌ علينا: ہمارے قریب ہونا اور ہماری طرف جھانکنا۔ أَشْرَعَ بابَه إلى و على الطريق: دروازہ راستہ کی طرف کھولنا۔ الشارِع جمع شَوارِع: عام گزرگاہ، بہت آمد و رفت والی سڑک۔ بيتٌ شارِع: سڑک کے قریب واقع مکان۔ الشوارع من النجوم (فلك): ڈوبنے کے قریب ستارے۔ الشَرِيعة جمع شَرائِع: دہلیز، چوکھٹ۔

۳۔ شَرَعَ - شَرْعًا و شُرُوعًا في الماء: پانی میں گھسنا یا پانی کو چلو سے پینا۔ ـــ الوارِدُ: پانی کو منہ لگا کر پینا۔ ـــ الماشِيةَ: مویشی کو پانی پر لانا۔ ـــ الأمرَ: کام شروع کرنا۔ ـــ في الأمر: کام میں مشغول ہونا۔ ـــ بفلان: کسی کو پانی پر لانا۔ ـــ يضربُ: کا مارنے لگنا۔ شَرَّعَ و أَشْرَعَ هُ في الماء: کو پانی میں داخل کرنا۔ الشِرْعة جمع شِرْع و شِرَع و شِرَع و شِراع: پانی کی جانب راستہ۔ الشُرَّع و الشُرُوع: کہتے ہیں: إبِلٌ شُرَّعٌ و شُرُوعٌ پانی میں گھسے ہوئے اونٹ۔ الشَرِيعة ج شَرائِع: [illegible]

maarfat.com

المَشْرَعة و المَشْرُعة جمع مَشارِع: پانی کا گھاٹ۔ الامرَ المشروع: وہ کام جو آپ نے شروع کیا ہو۔

۴۔ شَرَعَ - شَرْعًا و شُرُوعًا الرماحُ فَشَرَعَت هي: نیزوں کو سیدھا کرنا تو ان کا سیدھا ہو جانا۔ أَشْرَعَ عليه الرمحَ: نیزہ کو کسی کی طرف سیدھا کرنا۔ الشارِع م شارِعة جمع شُرَّع و شُرُوع و شَوارِع (فا): رماح شارعة و شَوارِع: سیدھے کئے ہوئے نیزے۔ الشِراع جمع أشْرِعة و شُرُع: کمان کی تانت۔ الشُراعِي من الرماح: لمبا نیزہ جو شراع نامی شخص سے منسوب ہے، جو نیزے بنایا کرتا تھا۔ الشَرْعة و الشِرْعة ج شِرَع و شَرْع و شِراع: کمان کی تانت؛ تار یہ بھی کہتے ہیں: ضربوا على الشَرَع: انہوں نے تانت کو بجایا۔ الشِرْع: سارنگی کے تار۔ جوتے کا تسمہ۔ المشروع: سیدھا کیا ہوا۔

۵۔ شَرَعَ - شَرْعًا الشيءَ: چیز کو بہت اونچا کرنا۔ ـــ الحبلَ: رسی کھول کر اس کے دونوں کناروں کو کڑے میں ڈالنا۔ شَرَّعَ السفينةَ: کشتی میں بادبان لگانا۔ ـــ الحبلَ: رسی کی گرہ کھولنا۔ أَشْرَعَ الشيءَ: کو بہت اونچا کرنا۔ الشِراع جمع أشْرِعة و شُرُع: ہر نصب کی ہوئی اور اٹھائی ہوئی چیز۔ بادبان اونٹ کی گردن۔ کہتے ہیں: رجلٌ شِراعُ الانف: لمبے بانسے کی ناک والا۔ الشِراعِي من الإبل: لمبی گردن والا اونٹ۔ الشُرْعَة جمع أشْراع: کشتی۔ الشِرْعة جمع شِرْع و شَرْع و شِرَع و شِراع: بھٹ، تیتر، شکار کرنے کا جال۔ أنف أشْرَع: لمبے بانسے کی ناک۔ المُشَرَّع من البيوت: اونچا مکان۔

۶۔ الشَرَاعة: شجاعت، بہادری۔ الشَرَّاع: عمدہ کتان بیچنے والا۔ الشريع: بہادر، شجاع، عمدہ کتان۔ ـــ من الليف: درخت خرما کے تخت چبھنے والے کانٹے۔ المِشْرَع (مو): گھڑی کے رقاص (pendulum) جیسے رقاص والا آلہ موسیقی جو موسیقی سن کر تیز حرکت ظاہر کرتا ہے۔

۷۔ شَرْعَبَ الاديمَ: چمڑے کو لمبائی میں کاٹنا۔ الشَرْعَب: لمبا، طویل۔ الشَرْعَبِيّ: ایک قسم کی چادر، خوبصورت جسم کا لمبا آدمی۔

○ شَرَعَ - شَرْعًا و شُرُوعًا في: میں داخل ہونا؛ (في/ب) سے شروع کرنا، آغاز کرنا شرع يفعل: کرنے لگنا؛ ـــ ہ: (اسلحہ وغیرہ) کو (علی) کسی کی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

طرف کرنا یا اس کا رخ کسی کی طرف کرنا؛ — ہ: کو کھولنا؛ — ہ: (سنگین) کو۔ (علی): (رائفل) پر لگانا۔ — ہ: (قوانین) کو رائج کرنا، وضع کرنا، بنانا۔ — ہ: (قوانین) وضع کرنا، بنانا۔ (ل) کے لئے۔ شرع مشروعا: کوئی سکیم بنانا۔ شَرَّعَ (ہ): ہتھیار کا نشانہ (علی) کی طرف کرنا۔ شَرَّعَ: قانون سازی کرنا۔ أَشْرَعَ ہ: ہتھیار نکال کر (علی) کی طرف کرنا یا اس کا رخ کی طرف کرنا۔ أَشْرَعَ عینیہ إلی: کو ایک نظر دیکھنا، پر سرسری نظر ڈالنا۔ أَشْرَعَ قَلَمَهُ: اپنی قلم نکالنا یعنی لکھنے کے لئے تیار ہونا۔ إِشْتَرَعَ ہ: قوانین کو رائج کرنا، وضع کرنا، بنانا۔ — ہ: قوانین، مقرر کرنا یا دینا (ل) کیلئے یا کو، قوانین وضع کرنا (ل) کیلئے۔ الشَّرْعُ: اسلامی قانون۔ شَرْعًا و فرعًا: مکمل حق کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ، کے حق کے طور پر۔ شَرْعِيًّا: قانونی طور پر، قانون کی نظر میں، جائز طور پر۔ الطب الشرعي: عدالتی طب۔ القضاء الشرعي: شریعت پر مبنی عدالتی اختیار۔ المحاكم الشرعية: مذہبی عدالتیں۔ شَرْعِيَّة: قانونی الاستحقاق، قانونی کی مطابقت، جائز حق، جواز۔ شِرْعَة: قانون۔ الشِّرْعَة: شریعت، اسلامی قانون۔ شِرَاع جمع شُرُع و أَشْرِعَة: بادبان، خیمہ۔ شِرَاعِي: بادبانی۔ سفينة شِرَاعِيَّة: بادبانی کشتی۔ طَائِرة شِرَاعِيَة: بے انجن طیارہ (glider)۔ شَرَّاعَة: جھروکہ، دروازہ میں جھانکنے کا سوراخ۔ شَرِيعة جمع شرائع: باؤلی، باولی کا راستہ، قانون۔ نهر الشريعة: دریائے اُردن۔ مَشْرَعَة جمع مشارع: پانی پینے کی جگہ۔ تشريع: قانون سازی۔ سلطة التشريع: قانون سازی کا اختیار، قانون سازی، مجلس قانون ساز، مقننہ۔ تشريعي: قانونی ساز۔ الجَمْعِيَّة التشريعية: قانون ساز اسمبلی۔ دورة تشريعية: قانون سازی کا عرصہ، یا اجلاس۔ السُّلطة التشريعيه بمعنى سلطة التشريع۔ تثنية الاشتراع: حضرت موسیٰ کی پانچویں کتاب۔ إِشْتِرَاعِي: قانون سازی کا۔ شارع: قانون ساز، قانون دینے والا جمع شارعون۔ شارع جمع شَوارِع: گلی، سڑک۔ شارع رئيسي: بڑی سڑک شاہراہ، عام گزرگاہ۔ شارع عام: عام گزرگاہ، شارع عام۔ مشروع: جائز، قانونی، قانون کے مطابق، جائز حقدار۔ مشروع جمع مشروعات، و مشاريع: پلان، پراجیکٹ، سکیم، ڈیزائن، کارِ عظیم، ذمہ داری۔

مَشْرُوعُ قانون: بل، مسودہ قانون۔ مشروعية: قانونی استحقاق، جواز۔ مُشَرِّع جمع مُشَرِّعُون: قانون ساز، قانون دینے والا۔ مُتَشَرِّع: قانون ساز، قانون دینے والا، ماہر قانون فقیہ۔ مُشْتَرِع جمع مُشْتَرِعون: قانون ساز، قانون دینے والا، ماہر قانون، فقیہ۔

شرف: ۱۔ شَرُفَ ــ شَرَافَةً و شَرَفًا: شریف ہونا، بلند رتبہ والا ہونا، دین و دنیا میں بلند مرتبہ کا حامل ہونا۔ ــ شَرُفَهُ: پر شرف میں غالب آنا، صفت مفعولی: مَشْرُوف۔ شَرَّفَهُ: کو بزرگی دینا، کی عزت کرنا۔ شَارَفَهُ: شرافت و بزرگی میں کسی پر فخر کرنا۔ تَشَرَّفَ الرجلُ: شرف حاصل کرنا۔ — بكذا: کو اپنے لئے باعث شرف جاننا۔ تُشُرِّفَ القومُ: قوم کے عزت دار لوگوں کا قتل ہونا۔ إِسْتَشْرَفَ الشاةَ: بے عیب بکری کو تلاش کرنا۔ الشَّرَف (مص): بلندی و بزرگی، خاندانی شرافت، شریف۔ کہتے ہیں: هو شَرَفُ قومه و كَرَمُهُم: وہ اپنی قوم کا شریف اور کریم شخص ہے۔ الشُّرْفَة: خاندانی شرافت۔ الشُّرْفَةُ من المال: مال کا عمدہ حصہ۔ کہتے ہیں: أَعِدُّ زيارتكم شُرْفَةً: میں آپ کی آمد کو مہربانی اور شرف سمجھتا ہوں۔ الشَّارِف (فا) جمع شُرَّف و شُرُف و شُرُوف و شُرْف: عنقریب صاحب شرف ہونے والا۔ الشَّرِيف ج شُرَفاء و أَشْرَاف مونث شَرِيفَة جمع شرائف و شَرِيفات: صاحب شرف، عزت دار۔ — عند المسلمين: خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والا۔ الخط الشريف: سلطان کے ہاتھ یا اسکے حکم سے لکھی جانے والی تحریر۔ نقيب الاشراف: نبی کریم کی اولاد کے نسب نامہ کا ریکارڈ رکھنے والا تا کہ کوئی غیر اس کا دعوی نہ کر سکے۔ الشَّرِيفَة: کہتے ہیں: فلانٌ نفسُه شَرِيفَةٌ: وہ شریف النفس ہے۔ الأَشْرَف: اسم تفضیل ہے۔

۲۔ شَرَفَ ــ شَرْفًا الحائطَ: دیوار میں کنگرہ بنانا۔ شَرِفَ ــ شَرَفًا: بلند ہونا۔ شَارَفَ المكانَ: پر چڑھنا۔ — الشيءَ: کو اوپر سے جھانکنا۔ شَرَّفَ البيتَ: گھر کے کنگرے بنانا۔ — المكانَ: پر چڑھنا۔ أَشْرَفَ الشيءُ: بلند اور اونچا ہونا، کھڑا ہونا۔ — المكانَ: پر چڑھنا۔ — عليه: کو اوپر سے جھانکنا، پر مہربان و مشفق ہونا۔ تَشَرَّفَ البيتُ: گھر کا کنگرے والا ہونا۔ — المكانَ: پر چڑھنا۔ — الشيءَ: پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز کو نظر اٹھا کر دیکھنا۔ — للشيء: کو جھانکنا۔ — على الشيء: کو اوپر سے جھانکنا۔ إِشْتَرَفَ: کھڑا ہونا۔ إِسْتَشْرَفَ: کھڑا ہونا۔ — الشيءَ: پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز کو نظر اٹھا کر دیکھنا۔ — هُ حقه: کا حق مار لینا۔ الشَّرَف جمع أَشْرَاف: بلند جگہ، ناک۔ شَرَفُ البعير: اونٹ کا کوہان۔ أَشْرَافُ الانسان: آدمی کے کان اور ناک۔ الشُّرْفَة: شُرَفات کا واحد: مثلث یا مربع برجیاں، جو شہر پناہ یا محل کے اوپر کے حصہ میں بنائی جاتی ہیں۔ الشُّرْفَةُ من القصر ج شُرَف: محل کا چھجا، بالکونی۔ الأَشْرَف (ح): چگادڑ۔ قصرٌ أشرف م شَرْفَاء ج شُرْف: چھجوں یا برجیوں والا محل۔ رجُلٌ أَشْرَف: بلند کاندھے والا آدمی۔ منكبٌ أَشْرَف: بلند مونڈھا۔ الشَّرْفَاء: أَشْرَف کا مونث اور چھجوں (بالکونیوں) یعنی شُرُف کا واحد۔ — من الآذان: لمبا کان۔ حارِكٌ شَرِيف: مونڈھا۔ المُشْرِف من الاماكن: اونچی جگہ، اوپر سے جھانکنے کی جگہ۔ المُشْرَف جمع مَشارِف: جھانکنے کی جگہ۔ مَشَارِفُ الارض: زمین کی بلند جگہیں۔ المُسْتَشْرِف: بلند، اونچا۔

۳۔ شَرَفَ ــ شروفًا الناقةُ: اونٹنی کا بوڑھی ہونا۔ الشارِف من النوق جمع شُرَّف و شُرُف و شُرُوف و شُرْف: بوڑھی اونٹنی۔ سهمٌ شارِف: پرانا تیر۔ دَنٌّ شارف: پورانی شراب کا مٹکا۔ الشَّارِفَة جمع شارِفات و شَوَارِف: الشَّارِف کا مؤنث: بوڑھی اونٹنی۔ الشَّوارِف: شراب کے برتن

۴۔ شارَفَهُ: کے قریب ہونا اور آنا۔ أَشْرَف علي الموت: قریب المرگ ہونا۔ — ت الخيلُ: گھوڑوں کا تیز دوڑنا۔ — لك الشيءُ: کا تمہارے لئے ممکن ہونا اور تمہاری طاقت میں ہونا۔ — ت نفسُهُ على الشيء: کا حریص ہونا، اور اسکی خاطر ہلاک ہونا۔ المَشْرَفي: عرب کے ان دیہات کی طرف منسوب جو مشارف الشام کے نام سے معروف ہیں۔ اسی سے ہے: السيوفُ المشرفية: اشرفی تلواریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نسبت یمن میں ایک جگہ کی طرف ہے مشارف الشام کی طرف نہیں۔

○ شَرُفَ ــ شَرَفًا و شَرَافَةً: خاندانی، شائستہ، شریف، عالی نسب، امیرزادہ، مشہور، نامور، ممتاز، سربرآوردہ، بلند رتبہ ہونا۔ شَرَّفَهُ: (کو) شریف، عالی نسب، امیر زادہ، مشہور، نامور، ممتاز، سربرآوردہ بنانا، کو سرفراز کرنا، نواب بنانا، ممتاز بنانا، ممتاز کرنا، کی عزت کرنا، کو اعزاز عطا کرنا۔ ہ (ب): کا، کو شرف عطا کرنا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

شَـارَفَ ہُ: کیساتھ شرف اور عالی نسبی وغیرہ میں مقابلہ کرنا، ـــ ہ: کے قریب جانا، کے اتنا قریب آنا کہ دیکھا جا سکے، کی زد میں ہرونا، کو اوپر سے دیکھ سکنا، سے نظر میں آنا، کی نگرانی کرنا، پر تسلط قائم رکھنا، کی نگہبانی کرنا۔ أَشْرَفَ: اونچا، لمبا، بلند ہونا۔ ـــ علـی: سے کہیں بلند ہونا، سے اونچا ہونا، کو اوپر سے دیکھ سکنا، سے بڑھنا یا اونچا ہونا، سے نظر میں آنا، (کھڑکی یا دروازہ وغیرہ کا) کی طرف کھلنا، یا اسکا اس کی طرف رخ ہونا، میں تماشائی ہونا، میں تماشا دیکھنا، دیکھا کرنا، (کی) نگرانی کرنا، اوپر سے دیکھنا، کا انتظام کرنا، پر کنٹرول کرنا، کا اہتمام کرنا، کو چلانا، کا نظم ونسق کرنا، کا نگران ہونا، کے قریب ہونا، کو کرنے کو ہونا۔ تَشَرَّفَ بـ: سے مشرف ہونا، کا اعزاز ہونا۔ اِسْتَشْرَفَ الـی: کی عزت کرنا، کو نظر اٹھا کر دیکھنا۔ شَـرَف: مقام بلند۔ شَـرَف: بلند مرتبہ، شرافت، عالی نسبی، امتیاز، عظمت، معزز عہدہ، حقیقی منزلت، عزت، احترام، اعزاز، نیک نامی، شہرت وقار، بزرگی، جلال، شان۔ علـی شرفِهِ: کے اعزاز میں۔ شَرَفی: اعزازی۔ شُرْفة جمع شُرَفات و شُرُفات: بالکونی، بوکس (box) (تھیٹر کا) فصیل کی دندانے دار دیوار۔ شِرافة: (مکہ میں) شریف کا دفتر۔ شُرّافة جمع شُرّافات: بالکونی، گیلری۔ شـریف جمع شُـرَفـاء و أَشْـرَاف: ممتاز، نمایاں، مشہور، نامور، شریف، عالی نسب، امیر زادہ، شائستہ، محترم، نامی گرامی، برتر، بہترین، پر جلال، سرفراز، عالی شان، جلیل القدر، قابل احترام، آبرومند، باعزت، عزت مآب، قابل عزت، (تجارت پیشہ) دیانت دارانہ، شریف، نبی کریم کی اولاد کا لقب۔ الشریف: (عثمانی سلطنت کے دور میں) مکہ کے گورنر کا لقب۔ مَشْـرَف: بلند جگہ وہ جگہ جہاں سے دور دور تک نظر آئے، بلندی جمع مشـارف: بلندیاں، پہاڑیاں۔ تَشْرِيفة جمع تشریفات: اعزاز، اعزازات بخشی۔ تشـریفات: آداب محفل، مجلسی آداب، پروٹوکول۔ التشریفات الملكية: سابق شاہ مصر کے معائنے اور تشریف آوریوں اور استقبالوں کے متعلق اعلامیہ۔ رئیس التشریفات: مہتمم تقریبات۔ كِسْوَةُ التشريفة: پریڈ کی وردی۔ مَلابِـس التشريفة: جشن کا لباس۔ مُدِيـر التشـريفـات: چیف آف پروٹوکول، ناظم استقبال سفراء۔ تشـريـفـاتـي: تقاریب کا ماہر تقریبات، شاہی مہتمم، ناظم استقبال سفراء، بَـدْلة تشـريـفـاتية: پریڈیونیفارم۔ تـحـت اشْرافِ: کے زیر اہتمام، کے زیر سرپرستی۔ مُشْرِفٌ علی الموت: قریب المرگ۔ مُسْتَشْـرَف: Terrace۔ کھلی جگہ، بالاخانہ۔

شرق: ۱۔ شَرَقَ ـ شَرْقًا الشاةَ: بکری کا کان لمبائی میں چیرنا، صفت مفعولی: شَرْقاء۔ شَرِقَ ـ شَرَقًا ت الشـاةُ: بکری کا لمبائی میں چیرے ہوئے کانوں والی ہونا۔ اِنْشَـرَقَ ت الـقـوسُ: کمان کا پھٹنا۔ الشَّـرْق ج أَشْـرَاق: پھٹن، شگاف، اس سے ہے: مـادخَـل شَـرْقَ فمي شيءٌ: یعنی میرے منہ (کے شگاف) میں کوئی چیز اندر نہیں گئی۔ و۔ الشِّرق: دروازے کی درز سے داخل ہونے والی روشنی۔ الشَّرَّاق (ب): کمرہ میں روشنی اور ہوا داخل ہونے کی درز یا شگاف (عام زبان میں)۔ مِشْـرِيـقُ الـبـاب: دروازہ کی دراڑ جس میں سے طلوع آفتاب کے وقت دھوپ اندر آجائے۔

۲۔ شَرَقَ ـ شَرْقًا المَرَقَ: شوربے کو اس کی گرمائی کے ڈر سے خود ہی حلق کی طرف کھینچنا، (عام زبان میں)۔ شَرِق ـ شَـرَقًـا بریقه: تھوک سے گلا گھٹ جانا۔ عوام تَشَـرْدقَ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا اسم شَرْدُوقَة ہے۔ ـ الجرحُ بالدم: زخم کا خون سے بھر جانا۔ ـــ الموضعُ بأهلِه: جگہ کا لوگوں سے بھر کر تنگ ہوجانا۔ ـ ت الارضُ: زمین کا پانی جاری ہونے کے قابل نہ ہونا۔ أَشْـرَقَ ہُ بِـرِيـقـه: کو اچھولگنا۔ اِشْرَوْرَقَ اِشْرِيراقًا ت العينُ بالدمع: آنکھوں کا آنسوؤں سے ڈبڈانا، سرخ ہونا۔ الشَّرْقَة: شَرِقَ کا اسم مرہ۔ کہتے ہیں: اَخَـذَتْـهُ شَرْقَةٌ كاد يـمـوت منها: اسے اچھولگ گیا، جس کی وجہ سے وہ مرنے لگا۔ (عوام اسے شَهْـــقَة بھی کہتے ہیں)۔ شَرْقَة: کالی کھانسی۔ المِشْرَاق: جس سے اچھولگتا رہتا ہو۔

۳۔ شَرَقَ ـ شَرْقًا و شُرُوقًا ت الشمسُ: سورج کا نکلنا، طلوع ہونا۔ ـ النخلُ: درخت خرما پر کھجور کا گدر ہونا۔ شَـرَقَ شَـرْقًـا الثمـرَ: پھل چننا، توڑنا۔ شَرَّقَ: مشرق کو روانہ ہونا، چمکدار اور خوبصورت چہرہ والا ہونا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کے پارچے بنانا یا اسے دھوپ میں خشک کرنا۔ أَشْـرَقَ ت الشـمـسُ: سورج کا طلوع ہونا اور چمکنا۔ أَشْـرَقَ وجـهُـهُ: چہرے کا چمکدار ہونا۔ ـ المكانُ: جگہ کا سورج نکلنے سے روشن ہونا۔ ـ الرجُلُ: طلوع آفتاب کے وقت داخل ہونا۔ ـ ت الشمسُ المكانَ: سورج کا جگہ کو [illegible]

ہونا۔ تَشَـرَّقَ: دھوپ میں بیٹھنا۔ الشَّـرْق جـمع أَشْراق (فلك): سورج نکلنے کی جگہ، سورج۔ الشَرَق (مص): سورج۔ الشَرِقَة: موسم سرماء میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ۔ ـــ و الشَرِقَة: چڑھنے کے وقت کا سورج۔ الشـريق جمع شُرُق: طلوع کے وقت کا سورج، خوبصورت لڑکا۔ التشـريـق (مص): نماز عید۔ أيام التشريق: عیدالضحٰی کے بعد تین دن جن میں گوشت خشک کیا جاتا ہے۔ الشـارِق (فا) جمع شُـرُق: نکلتا ہوا سورج، سورج کے سوا ستاروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ (کہتے ہیں: لا أكلّمك ماذرّ شـارِق: میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک کوئی طلوع ہونے والا طلوع ہوتا رہے گا، پہاڑ وغیرہ کا مشرقی پہلو۔ الـمَشْـرِق و الـمَشْرَق و المَشْرُق جمع مَشَارِق: سورج نکلنے کی جگہ یا سمت۔ المَشْرِقان و المغرِبان: موسم گرما اور سرما کے مشرق۔ الْمَشَارِق والْـمَـغـارِب: سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کی مختلف جگہیں کیونکہ سورج سال کے اختتام تک ہر روز ایک جگہ طلوع ہوتا ہے اور ایک دوسری جگہ غروب ہوتا رہتا ہے۔ الـمَشْـرِقَة و المَشْرَقة و المَشْرُقَة و الـمِشْراق و المِشْرِيق: سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ۔ المُسْتَشْرِق: مشرقی زبانوں، آداب اور علوم کا ماہر۔ اسم اِستشراق ہے۔

۴۔ شَرِق ـ شَرَقًا الـدمُ فـي عينه: آنکھ میں خون ظاہر ہونا۔ ـ لَونُهُ: شرم سے رنگ سرخ ہونا۔ شَرِقَ ت عينه: کی آنکھ کا سرخ ہونا۔ ـــ الشيءُ: چیز کا مخلوط ہونا۔ ـــ ت الشمسُ: سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ اور اس کے رنگ میں مٹیالہ پن اور سرخی کا مخلوط ہونا۔ شَـرَّقَ الشـیءَ بـالـزعفـران: چیز کو زعفران میں رنگنا۔ أَشْـرَقَ الثوبَ فـي الـصبـغ: کپڑے کو گہرا رنگ دینا۔ اِشْـرَوْرَقَ اِشْرِيراقًا ت العين بالدمع: آنسو سے آنکھ کا سرخ ہونا۔

۵۔ شَـرَّقَ البنـاءَ: عمارت کو چونے وغیرہ سے لیپنا۔ الشَّارُوق: چونے کا پلستر، راکھ ملا ہوا چونا۔ المُشَـرَّق (مفع): چونے وغیرہ سے پلستر کیا ہوا۔

۶۔ الشَـرَقْرَق و الشَرَقْرَاق و الشِرِقْراق و الشَقِرَّاق (ح): ایک چھوٹا پرندہ جسے الأخيل بھی کہا جاتا ہے۔ عوام اسے الشُقُرّق کا نام دیتے ہیں۔

○ شَرَقَ ـ شَرْقًا و شُرُوقًا: (سورج کا) نکلنا، طلوع ہونا؛ چمکنا، روشن ہونا، شعاعیں نکلنا۔ شَـــرِقَ ـ شَرَقًا اچھولگنا۔ ـــ بدمعه: بمشکل آنسو روکنا، پانی جانا۔ شَـرَقَ ـ ہ: کی چسکی لگانا، کو چپڑ چپڑ پی جانا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کاٹ کھانا، کوسڑ کنا، چوسنا۔شَـرَّق: شرق کی طرف جانا ــــ ه: گوشت کے پارچے کرکے دھوپ میں سکھانا۔اَشْرَقَ: سورج کا نکلنا، چمکنا، شعائیں نکالنا۔ تَشَرَّقَ: مشرقی ہونا، شرق کا باشندہ ہونا۔اِسْتَشْرَقَ: مشرقی ہونا، مشرقی انداز اختیار کرنا، مشرق کا مطالعہ کرنا۔شَـرْق: طلوع آفتاب، مشرق۔شـرقـاً: مشرقی جانب۔شرق الاردن: ماوراء اردن (۱۹۵۰ تک) الشرق الادنى: مشرق قریب۔الشرق الاقصٰى: مشرق بعید۔الشرق الاوسط: مشرق وسطیٰ۔شرْقِيّ: مشرقی۔الشرقيون: مسیحی چرچ کے مشرقی۔شـرقي اوربا: مشرقی یورپ۔ شِرَاق: گودے دار چیز کی لکڑی، ہلکی لکڑی۔شُـرُوق: طلوع آفتاب۔شَـرَاقـي: دریائے نیل سے سیراب نہ ہونے والی زمین۔شَـرَّاق: سیکشن پمپ کا حصہ part of suction pump۔الـمَشْـرِقـان: مشرق و مغرب۔مشـارقُ الارض و مـغـارِبُهـا يا المشرقان و المغربان: پوری دنیا۔في المغربين و في المشرقين: دنیا بھر میں۔مشـرقي: مشرقي جمع مشارقة: مشرقی باشندہ۔الـمشـرقيات: مشرقی مطالعے۔تشـريـق: مشرقی بنانا: گھریلو صنعت کی ترقی (اقتصادی) آزادی کے لئے سرگرمی۔ اِشـراق: روحانی جلا (نوفلاطونیت سے ماخوذ تصوف)۔ الاشراقيون: روحانی جلا کے قائل۔الاستشراق: مشرقی مطالعے۔مُشْـرِق: چمکدار، درخشان، منور، تابان۔مُسْتَشْرِق: مشرقی تہذیب کا حامل، مشرقی علوم کا ماہر۔شَـرَقْـرَق و شَـرَقْـراق: سبز کٹھ پھوڑا، ہُد ہُد وغیرہ۔

شرك: ا۔ شَرِكَ ـَ شَـرَكَاتُ النعلُ: جوتے کا تسمہ ٹوٹنا۔ شَـرَّكَ و أَشْـرَكَ الـنعلَ: جوتے میں تسمہ لگانا۔ الشَّـرَك جـمـع شُـرُك و أَشْـرَاك واحد شَـرَكة: جال، پھندا، راستہ پر جانور کے قدموں کے نشانات۔ الشِّـراك جـمـع أَشْـرُك و شُـرُك: جوتے کا تسمہ جو پشت قدم پر پڑے۔زمین پر گھاس کی ایک پٹی۔ الشُّـرَكَى و الشُّـرَّكَى: تیز چال۔کہا جاتا ہے: لَطَمَـهُ لطما شُرَكِيًّا: اس نے اسے جلدی جلدی پے در پے طمانچے مارے۔

شَرِكَ ـَ شَـرْكـا و شَـرِكا و شِرْكَةً و شَرِكَةً ہُ: کا شریک ہونا۔شَـارَكَ ہُ و تَشَـارَكـا: باہم شریک ہونا، ایک دوسرے کا حصہ دار بننا۔ أَشْـرَكَ ہُ فـي أَمْرِہِ: کو اپنے کام میں شریک کرنا ــــ باللّٰه: اللہ کے لئے شریک ٹھہرانا صفت: مُشْـرِك و مُشْـرِكي: اسم شِرْک۔اِشْتَرَكَ الامرُ: کسی امر کا مشتبہ ہونا۔ ـــ القومُ في كذا: میں باہم شریک ہونا۔الشِّرْك جـمـع أَشْـرَاك: شَرِك و أَشْرَك کا اسم، شریک، حصہ، اسی سے ہے بِيْعَ شِـرْكٌ من دارہ: اس کے گھر کا حصہ فروخت کیا گیا۔الشِّـرْكَةُ (مـص): شریک کا حصہ، دو یا زائد حصوں کا اس طرح مل جانا کہ آپس میں تمیز نہ ہو سکے، عقد پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔خواہ یہ اختلاط نہ ہو۔جیسے شـر كة تـجـاريـة۔ الشَّـريك جـمـع شُـرَكاء و أَشْـرَاك م شَرِيْكَة جمع شَرَائِك: شریک۔کہتے ہیں: اللّٰه لاشريكَ له: یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔الـمُشْتَرَك (مفع): وہ چیز جس میں دو یا زائد کی شرکت ہو۔کہتے ہیں: طَـــرِيـــق مُشْـتَـرَكٌ و رایٌ مُشْـتَـرَكٌ و امـرٌ مُشْـتَـرَكٌ: مشترکہ راستہ، رائے یا معاملہ۔لـفـظٌ مُشْـتَـرَك: وہ لفظ جس کے کئی معانی ہوں، جیسے عین۔رجُـلٌ مُشْتَرَكٌ: اپنے جی میں باتیں کرنے والا۔الاشتراكي: اشتراکیت کا تابع۔الإِشْتَراكِيَة: سوشلزم، اشتراکیت، مذہب جس کا موقف معاشرہ کی شکل تبدیل کر کے وسائل پیداوار کو مشترکہ بنانا، دولت کے حصے تمام لوگوں کو دینا نیز مشترکہ کام اور اشیائے صرف کی سب میں تقسیم ہے۔

۞ شَرِكَ ـَ شِـرْكا و شِرْكَةً و شَرِكَةً ہُ في: کا میں شریک ہونا، کے ساتھ میں حصہ لینا، کا میں شریک، حصہ دار، ساجھی یا ہم صحبت ہونا۔شَارَكَ ہ ہ یا في: کا میں شریک ہونا، کے ساتھ میں شرکت کرنا، کا میں شریک حصہ دار ساجھی اور ہم صحبت ہونا۔ ـ ہ: کا ہمصحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کے ساتھ حصہ داری میں شامل ہونا ــــ ہ ہ یا في: کے ساتھ میں شراکت قائم کرنا، کے ساتھ میں شامل ہونا۔ ــــ ہ: کے ساتھ ہمدردی کرنا۔شـارَكـه رأيـه: کی رائے میں شریک ہونا۔أَشْرَكَ ہُ: کو حصہ دار، شریک، ساجھی اور ساتھی بنانا۔ ـ ہ في: کو میں حصہ دینا۔ ـ ہ ب: کسی چیز کو کے ساتھ جوڑنا، باندھنا، نتھی کرنا، کو میں شریک کرنا۔اشـركـه بالله: کسی کو اس کی تخلیق اور حکم میں ساتھی یا شریک بنانا۔اشرك باللّٰه: مشرک ہونا، بت پرست ہونا۔ تَشَارَكَ مـع: کے ساتھ شراکت کرنا ــــ في: میں باہم حصہ دار ہونا۔اِشْتَرَكَ مع: کے ساتھ شراکت کرنا، تعاون کرنا۔ ـ مع في: کے ساتھ میں شرکت کرنا، کے ساتھ میں حصہ لینا۔ ـ في: میں ساتھ مل کر کام کرنا، میں اشتراک میں کام کرنا، میں ہم کاری کرنا، میں حصہ لینا، کا سبب بننا، میں ممد ہونا، میں چندہ دینا، کی تائید کرنا۔شِـــرْك: شرک، بت پرستی۔اهـلُ الشرك: مشرکین، بت پرست۔ شَرَك جـمـع شُرُك و اَشْراك و شِرَك: جال، دام، پھندا، گڑھا۔نَصَبَ له شَرَكا: کے لئے جال بچھانا۔شُـرُك: جعلی، غلط، نقلی مصنوعی۔شِـرْكَة و شَرِكة: شراکت، رفاقت جمع شـركات: شرکت، مستقل رفاقت، کمپنی، کارپوریشن، تجارتی فرم، ادارہ، کارخانہ کاروبار، تجارت۔شـركةُ التـامين: بیمہ کمپنی۔شـركة تجارية: تجارتی کمپنی، فرم۔شـركة الاذاعة: نشریاتی کارپوریشن۔شـركةُ الـمُسَاهَمَة: مشترکہ سرمایہ کی کمپنی یا کارپوریشن۔شـركة سِهَامِية: مشترکہ سرمایہ کی کمپنی۔شـركة الشركات: ٹرسٹ، اتحاد تجار۔شِـرَاك جـمـع شُـرُك و أَشْرَاك: تسمہ۔ شـريك جمع شُرَكاء و أشراك: حصہ دار، حصہ لینے والا، شریک، ساجھی، ساتھی رفیق، متحد، منسلک، نیم وفاقی، حلیف، اتحادی۔ شریک مالک، شریک (جرم)، رفیق (جرم)۔شـريك مُوصٍ: خاموش حصہ دار Silent partner۔شُـرَيك: تکوں والا کیک۔شَـرِيـكة: شریک کا مؤنث۔سيـاسـة التشـريك: اتحادی پالیسی۔بـالاشـتراك مـع: کے ساتھ مشترکہ طور پر، اتفاق رائے سے، کے ساتھ۔ اشـتـراك شـهـری: ماہانہ چندہ۔اشـتـراكـي: اشتراکی، اشتراکیت پسند جمع اشـتـراكـيـون۔ اشتراكية: socialism, socialistic۔الامنُ المشتركُ: اجتماعی حفاظت۔ بـلاغٌ مُشْتَرَك: مشترکہ اعلامیہ۔السوق المشترك: کامن مارکیٹ Common market۔الشُّعُور المشترك: اتحاد، یکجہتی، بھائی چارہ کی سپرٹ۔

شرم: ا۔ شَرَمَ ـِ شَـرْمًا الشیءَ: چیز کو پھاڑنا۔ ــــ الانف: ناک کا بانسہ کاٹنا ــــ الثَّرِيدَة: ثرید کو اطراف سے کھانا ــــ لفلانٍ من ماله: کسی کو اپنے مال میں سے کچھ دینا۔ شَرِمَ ـَ شَـرَمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا صفت: أَشْـرَم م شَـرْمَـاء جمع شُـرْم۔ شَـرَّمَ ہُ: کو پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَشَـرَّمَ و اِنْشَرَمَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پھٹنا ــــ الـصيـدُ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگ جانا۔الشَّـرْم (مص) جمع شُروم: خلیج۔الشَّارِم (فا): تیر جو نشانہ کے پہلو کو چھید دے۔

۲۔الشَّـرْم جـمـع شُـرُوم: سمندر کا گہرا حصہ، کھاڑی۔ (ن) ایک قسم کا درخت۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ـ شَرْم جمع شُروم: درز، شگاف، چاک، چیر، خلیج، کھاڑی۔

○ شَرْمَطَ ہ: کسی چیز کو چیتھڑے چیتھڑے کر دینا۔ شَرْمُوطَة جمع شراميط: چیتھڑا، دھجی، ٹکڑا، پرزہ، رنڈی، کسبی، پھوہڑ عورت، طوائف۔

شرن: ۱۔ شَرِن ـ شَرَنًا الصخرُ: چٹان کا پھٹنا۔ الشَّرْن: شگاف۔

۲۔ انْشَرْنَبْث و الشَّرَنْبَذ: سخت موٹے ہاتھوں والا۔ (ح): شیر۔

۳۔ الشَّرْنُبى (ح): ایک پرندہ۔

۴۔ شَرْنَفَ الزرعَ: کھیت کے بڑھے ہوئے پتوں کو چھانٹنا۔

۵۔ شَرْنَقَ الشيءَ: کو کاٹنا۔ الشَّرانِق: سانپ کی اتاری ہوئی کینچلی ـــ واحد شَرْنَقَة: ریشم کے کیڑے کا کویا ان کو فیالج (جس کا واحد فیلجه) بھی کہتے ہیں اور مرادف الصُّلَّح ہے۔ جس کا احد صُلَّحة ہے۔

○ شَرْنقة جمع شَرَانِق: ریشم کے کیڑے کا کویا، (پیلے کا) خول (سانپ کی) کینچلی، سن کا ریشہ، سن کا بیج۔

شره: شَرِهَ ـ شَرَهًا و شَرَاهَةً إلى الطعام و عليه: کھانے کا بہت حریص ہونا، صفت شَرِه و شَرْهان۔ الشَّرِه: ضرورت سے زیادہ کھانا کھانے والا الاسم الشراهة ہے۔ الشَّرْهاء من السنين: خشک سال۔

○ شَرِهَ ـ على یا إلى: (کھانے) کا بہت لالچی ہونا، ـ: لالچ سے کھانا، بھوکوں کی طرح کھانا، بسیار خور ہونا، کھاؤ، پیٹو، پرخور ہونا۔ شَرَهٌ و شَرَاهَة: پرخوری، بسیار خوری، بھوکوں کی طرح کھانا، پیٹو پن، ندیدہ پن، حرص، طمع، لالچ، شیفتگی۔

شرو: ۱۔ الشَّرْوُ و الشِّرو: شہد۔

۲۔ الشِّروال: دیکھو سروال۔

شری: ۱۔ شَرَى ـ شِراءً و شِرًى الشيءَ: کو خریدنا، بیچنا ـــ بنفسه عن قومه: پیش قدمی کر کے قوم کی طرف سے لڑنا، بادشاہ کے پاس قوم کی نمائندگی کرنا۔ شَارَى مُشاراةً و شِراءً الرجلَ: سے خرید و فروخت کرنا۔ أَشْرَى القومُ: طاعتِ امام سے باہر ہو کر خارجیوں جیسا ہو جانا۔ تَشَرَّى تَشَرِّيًا: خارجی بن جانا۔ اشترى الشيءَ: چیز خریدنا، بیچنا۔ الشراء جمع أَشْرِيَة و الشِّرى: خریدنا، بیچنا۔ الشَّرَى و الشَّرَاة: مال کا عمدہ یا ردی حصہ۔ کہتے ہیں: إبلٌ شَرَاةٌ: عمدہ اونٹ۔ الشَّرْوَى: مثل، مانند، مشابہ (واحد تثنیہ، جمع مذکر مونث سب کے لئے یکساں مستعمل ہے)۔ کہتے ہیں هو و هي و هما و هم و هن شَرْوَاك: وہ (سب) تم جیسے ہیں۔ نیز کہتے ہیں انه لا يملك شَرْوَى نقير: وہ نقیر کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یہ کم مائیگی کے بارے میں ضرب المثل ہے۔ نقیر کھجور کی گٹھلی میں گڑھے کو کہا جاتا ہے۔ الشَّرِي من الخيل: اچھا، چنا ہوا گھوڑا۔

۲۔ شَرِيَ يَشْرَى شَرًى الرجلُ: اصرار کرنا، غضبناک ہونا ـــ الفرسُ في سيره: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ ـــ الفرسُ في لجامِه و البعير في زمامِه: گھوڑے کا اپنی لگام اور اونٹ کا اپنی مہار کو کھینچنا ـــ زِمامُ الدابّة: لگام کا بہت ہلنا ـــ البرقُ: بجلی کا بہت چمکنا۔ الشرُّ بينهم: لوگوں کے درمیان برائی پھیلنا۔ شارَى مُشاراةً و شِراءً الرجلَ: سے جھگڑا کرنا اور ضد سے کام لینا۔ اسی سے ضرب المثل ہے: المُشاراة و المُماراة تُفسدان الصداقة القديمة: جھگڑے اور ہٹ دھرمی اور لڑائی سے پرانی دوستی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مشاراة: جھگڑنا اور ضد کرنا ہے اور مماراۃ لڑنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ لايشارى: فلاں شخص کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ أَشْرَى الزِمامَ: لگام کو ہلانا ـــ البرقَ: بجلی کا زور سے چمکنا ـــ الشيءَ: چیز کو جھکانا ـــ بينهم: لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا۔ تَشَرَّى تَشَرِّيًا: متفرق ہونا۔ تَشارَى تَشارِيًا الرجلان: ایک دوسرے پر غضبناک ہونا۔ إِسْتَشْرى إستشراءً الرجُلُ في الامر: کسی معاملہ میں اصرار کرنا، غضبناک ہونا ـــ ت الامورُ: معاملات سنگین ہو جانا، مشکل ہو جانا ـــ الفرسُ في سيره: گھوڑے کا تیز چلنا۔ إِشْرَوْرَى إشْرِيراءً: گھبرانا، مضطرب ہونا۔ الشُّراة: خوارج۔ الشَّرِيّ: بہت تیز رفتار گھوڑا۔ الشَّرِيَّة: الشري کا مؤنث۔

۳۔ شَرَى ـ شِراءً و شِرًى اللحمَ او الثوبَ او نحوهما: گوشت، کپڑے وغیرہ کو (سکھانے کے لئے) دھوپ میں رکھنا۔ شَرَّى اللحم او الثوب و نحوه: گوشت، کپڑے وغیرہ کو دھوپ میں رکھنا (سکھانے کیلئے)۔

۴۔ شَرَى ـ شِراءً و شِرًى هُ: سے ٹھٹھا کرنا، کو رنجیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے فَعَلَ به ما شراهُ: یعنی اس نے اسکے ساتھ وہ کیا جس نے اسے رنجیدہ کر دیا۔

۵۔ شَرَى [illegible]

پتی کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ شَرِيَ يَشْرَى شَرًى الجلدُ: جلد پر پتی اچھلنا۔ صفت شَرٍ أَشْرى الحوضَ: حوض بھرنا۔ الشَّرَى (طب): پتی اچھلنے کی بیماری، خارش، کھجلی۔

۶۔ الشَّراء: جانب، طرف۔ الشَّرَى ج أَشْراء: پہاڑ، سڑک، جانب، طرف۔ (کہا جاتا ہے: دخلوا أشراء الحرم: وہ حرم کے اطراف میں داخل ہوئے)، دریائے فرات کی طرف کا وہ علاقہ جہاں شیر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں هو كاسد الشرى: وہ شری کے شیر کی مانند ہے۔ الشَّرْيُ۔ واحد شَرْيَة (ن): اندرائن، حنظل۔ (کہتے ہیں: لفلان طعمان أَرْيٌ و شَرْيٌ: فلاں میٹھا بھی ہے کڑوا بھی ہے)، درخت خرما جو بیج سے اُگا ہو۔ الشَّارِي جمع شُراة (ف): برق رُبا (lightning rod)۔ الشَّرِيَّة: طریقہ، طبیعت۔ الشَّرْيان (ع ا): شرایین کا واحد: وہ اچھلنے والی رگ جس میں سرخ خون دورہ کرتا ہے۔ الشريان الرؤيّ (ع ا): وہ رگ جو خون کو دل سے پھیپھڑے میں منتقل کرتی ہے۔ الشِّرْيَانات: جسم کی باریک باریک رگیں۔ المُشْتَرِي (فلك): ایک سیارہ کا نام۔ (ح): ایک پرندہ۔

۷۔ شَرْيَفَ الزرعَ: کھیتی کے بڑھے ہوئے ضرر رساں پتے چھانٹنا۔

○ شَرَى ـ شِرًى و شراءً ہ ب: کو کچھ قیمت لے کر فروخت کرنا ـــ ہ: کو خریدنا ـــ المتاعبَ وغيرها: مصائب و تکالیف کو خود دعوت دینا۔ اشترى ہ: کو بیچنا، خریدنا۔ إِسْتَشْرَى: بدتر ہونا، زیادہ خراب ہونا، بگڑنا، ابتر ہونا۔ شِرًى جمع أَشْرِيَة: خریدنا، سودا، معاملہ۔ شِراء: خریدنا، فروخت۔ راغبُ الشراء: خریدنے کا متمنی۔ المقدرة على الشراء یا قوة الشراء: قوت خرید۔ لا يملك شَرْوَى نقير: اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لا يُجدِي شَرْوَى نقير: یہ بالکل بے کار ہے۔ الحُمَّى الشَّرَوِية: پچھوا (جلد کی ایک بیماری)۔ اِشتراء: خریدنا۔ شارٍ: بیچنے والا، سیلز مین، خریدنے والا، گاہک۔ مُشْتَرٍ: خریدار، فروخت کنندہ، گاہک۔ مُشْتَرَيات: خریدی ہوئی چیزیں۔

شز: شَزَّ ـ شَزَازَةً: بہت خشک ہونا۔ صفت شَزّ و شَزِيز۔

شزب: ۱۔ شَزَبَ ـ شَزِبَ ـ شَزْبًا و شُزُوبًا: کھردرا ہونا، لاغر ہونا اور خشک ہونا، صفت شازِب جمع شُزَّب و شَوَازِب: کہتے ہیں رجل شاحبٌ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شازبٌ: رنگ بدلا ہوا، لاغر آدمی۔ شَزَّبَ الفرسَ: گھوڑے کو لاغر کرنا۔ الشَــزْبَة: کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔ ـــ من الأُتن: دبلی پتلی گدھی۔ الشَـزِيْب جمع شُزُوب: ان گھڑ لکڑی، نئی نہ پرانی کمان۔

۲۔ تشـازبَ الـقـومُ عـلى الماء وعيره: لوگوں میں سے ہر ایک کا پانی وغیرہ میں اپنے حصہ کے لئے انتظار کرنا۔ کہتے ہیں: هـم متشازبون: ان میں سے ہر ایک پانی میں اپنے حصہ کا منتظر ہے۔ الشَــزْبَةُ: اسم مرد۔ الشُزبة: موقع فرصت۔ کہا جاتا ہے: مضت شُزْبَتُهُ: یعنی اس کا موقع جاتا رہا۔

۳۔ الشَوْزَب: علامت، نشان۔

شزر: ا۔ شَزَرَ ۔ شَـزْرًا الرجُلَ و اليه: غصہ میں یا بیدلی سے کسی کی طرف ترچھی نظر سے دیکھنا۔ ـ فلانًا: نیزہ میں بائیں سے نیزہ مارنا، نظر بد لگانا۔ ـ ـ شَزْرًا الـحبلَ: رسی بٹنا۔ شَـازَرَ مُشَـازَرَةً ہُ: بے دشمنی کرنا۔ تَشَزَّرَ: غضبناک ہونا۔ ـــ للقتال: آمادۂ پیکار ہونا۔ تَشَـازَرَ الـقومُ: ایک دوسرے کو غصہ کی نظر سے دیکھنا۔ إِسْتَشْـزَرَ الـحبلَ: رسی بٹنا۔ ـــ الشيءَ: کو بلند کرنا، اونچا کرنا۔ ـــ الحبلُ: رسی کا بٹنا۔ ـــ الشيءُ: چیز کا اونچا ہونا۔ الشَزْر (مص): کہتے ہیں: غَــزْلٌ شَـــزْرٌ: دھاگا جو یکساں نہ ہو۔ الشَــزَر والشُــزْرَة: آنکھ کی سرخی۔ الأَشْــزَر: سرخ۔ عَيْنٌ شَزْرَاء: غصہ کی وجہ سے سرخ آنکھ۔

۲۔ أَشْزَرَهُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو ایسی مصیبت میں ڈالنا جس سے خلاصی کی راہ نہ ملے۔ الشَزْر: سختی، دشواری۔

○ نظر اليه شَزَرًا: کی طرف کنکھیوں سے دیکھنا، کو شک وشبہ کی نظر سے دیکھنا۔ عَيْنٌ شَزْرَاء: کنکھیوں سے دیکھنے والی آنکھ، شک وشبہ سے دیکھنے والی آنکھ۔ نَظْرَةٌ شَزْرَاءُ: شک وشبہ کی نظر، مشتبہ نظر، شکی نگاہ۔

شزن: ا۔ شَـزِنَ ۔ شَـزَنًـا الرجُلُ: آدمی کا چست ہونا۔ تَشَزَّن تَشَـزُّنًـا و تَشْـزِيـنًـا الرجُلَ: کو پچھاڑنا۔ ـــ الشاةَ: بکری کو ذبح کرنے کے لئے لٹانا۔ ـ للسفر: سفر کی تیاری کرنا۔ الشَزْن: چوسر کھیلنے کا مہرہ۔ الشَـــزَن: طرف، جانب، دوری۔ الشُزْن: طرف، جانب، چوسر کھیلنے کا مہرہ۔

۲۔ تَشَزَّنَ تَشَزُّنًا و تَشْزِينًا الشيءُ: چیز کا سخت ہونا، دشوار ہونا۔ ـ له في الخصومة: کے ساتھ جھگڑے میں درشتی سے پیش آنا۔ الشَــزَن و الشُــزُن: سختی، زمین کی سختی۔ ـــ من العيش: زندگی کی تنگی وسختی۔ الشُزُونَة: سختی۔

شزا: شَزَا ۔ شَزْوًا: بلند ہونا۔

شسّ: شَسَّ ۔ شُسُـوسًا الشيءُ: چیز کا خشک ہونا۔ الشاسّ: لاغر، کمزور۔ الشَـسّ جـمـع شِـــاس و شُسُوس و شَسِيس: پتھر کی مانند سخت زمین۔

شسب: شَسِبَ ۔ شَسُبَ ۔ شَسْبًا و شُسُوبًا: خشک اور دبلا ہونا صفت: شاسِب جمع شُسُب الشِسْــب و الشَسِيب مـن القسيّ: پتلی لکڑی والی کمان۔ الشَسُـوب من النوق: وہ اونٹنی جس کا بچہ جاڑے میں مر گیا ہو اور پھر وہ دودھ نہ دے۔

شسع: ا۔ شَسَعَ ۔ شَسْعًا و شُسُوعًا المنزلُ: منزل کا دور ہونا۔ صفت: شَسُوع جمع شُسُع و شاسِع۔ شَسِعَ ۔ شَسَعًا الفرسُ: وہ گھوڑا جس کے سامنے کے اوپر نیچے کے دو دانتوں اور چار دانتوں اور کچلیوں کے مابین فاصلہ ہو۔ ـــ به: کو دور کرنا۔ أَشْسَعَ الشيءَ: کو دور کرنا۔ الشِسْع جمع أَشساع: تنگ زمین، جگہ کی طرف۔ کہتے ہیں: نزل بِشِسـعٍ مـن الـوادى: یعنی وادی کے ایک طرف اترا۔ ادنى من الشِسع: طرف سے زیادہ قریب۔

۲۔ شَسَعَ ۔ شَسْعًـا و شَسَّعَ و أَشْسَعَ النعلَ: جوتے کے لئے تسمہ بنانا۔ شَسِعَ ۔ شَسَعًـاتِ الـنـعلُ: جوتے کا تسمہ ٹوٹنا۔ الشِسـع جـمـع أَشْسَاع: جوتی کا تسمہ، تھوڑا یا بہت مال۔ هو شِسع مالٍ: وہ مال کا اچھا منتظم ہے۔

○ شـاسـع: دور، دور دراز، چوڑا، بڑا، بہت (فاصلہ)، بہت بڑا، وسیع، عظیم (اختلاف)۔

شسف: شَسَفَ ۔ و شَسُفَ ۔ شُسُوفًا و شِسافَةً و شَسَافَةً: خشک، لاغر اور دبلا پتلا ہونا، صفت: شاسِف و شَسِيف۔ الشِسْف: خشک روٹی۔ الشَسَف: کچی کھجور جسے چیر کر خشک کیا گیا ہو۔ الشَسِيف: وہ شخص جس کا گوشت لاغری سے خشک ہونے لگا ہو۔

شصّ: ا۔ شَصَّ ۔ شُصُـوصًا و شِصَاصًا الرجُلُ: دور ہونا۔ کہتے ہیں: ما ادرى اين شَصَّ: مجھے معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ ـــ ۔ شَصًّـا ہُ عن كذا: کو سے منع کرنا، دور کرنا۔ أَشَصَّ الرجُلُ: دور چلا جانا۔ ـ ہ عن كذا: کو سے روکنا اور دور کرنا۔

۲۔ شَصَّ ۔ شُصُوصًا و شِصَاصًاتِ الناقةُ: اونٹنی کا بہت تھوڑی دودھ والی ہونا۔ ـ ت المعيشةُ: گزران تنگ ہونا۔ أَشَصَّت الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ الشَصُوص من النوق او الشياه جمع شُصُص و شَصَائِص و شِصَاص: تھوڑے دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ سَنَةٌ شَصُوص: خشک سال۔ کہتے ہیں: نفى اللّٰه عنك الشَصَائِص: اللہ تعالیٰ تم پر سے سختیوں کو ٹالے۔

۳۔ الشِصّ جمع شُصُوص: مشاق چور۔ ـ والشَصّ جمع شُصُوص: مچھلی پکڑنے کا کانٹا۔ اس کو سنارہ بھی کہتے ہیں۔

○ ششخان: جھری ڈالی ہوئی (بندوق کی نالی)۔ اسلحة الششخانة: آتشیں اسلحہ۔ مُشَشْخَن: جھری ڈالی ہوئی (بندوق کی نالی)۔

شصب: ا۔ شَصَبَ ۔ شُصُوبًا و شَصِبَ ۔ شَصَبًا العيشُ: گزران کا تکلیف دہ ہونا۔ صفت: شاصِب۔ ـــ الامرُ: معاملہ کا سخت ہونا۔ ـــ المكانُ: جگہ کا قحط زدہ ہونا۔ أَشْصَبَ اللّٰه عَيْشَهُ: اللہ کی طرف سے کسی کی زندگی کو تکلیف دہ بنانا۔ الشَصْب و الشَصَب: خشکی۔ الشِصْب جمع أَشصاب: سختی، خشک سالی۔ عيش شَصِبٌ: پر تکالیف زندگی۔ الشَصِيبَة جمع شَصَائِب: سختی، خشک سالی۔

۲۔ شَصَبَ ۔ شَصْبًا الشاةَ: بکری کا چمڑا اتارنا، بکری کی کھال اُتارنا۔ الشُصُب: کھال کھینچی ہوئی بکری۔

۳۔ الشِصْب جمع أَشْصَاب: حصہ۔ الشَصَّاب: ٹھگ، دھوکے باز، عیار، فریبی۔ الشَصِيب: حصہ، مسافر۔ الشَصِيبَة جمع شَصَائب: کنویں کی گہرائی۔ الشصائب: پالان کی لکڑیاں۔

شصر: ا۔ شَصَرَ ۔ شَصْرًا الثوبَ: کپڑے کی سلائی میں دور دور ٹانکے لگانا۔

۲۔ شَصَرَ ۔ شَصْرًا فلانًا بالرُمح: کو نیزہ مارنا۔ ـ ہُ الثورُ: کو بیل کا سینگ مارنا۔

۳۔ الشَاصِر من الظباء م شاصِرة جمع شَوَاصر (ح): مضبوط اور حرکت کرنے کے قابل ہرن کا چھوٹا بچہ۔ الشَصَر م شَصَرة جمع أَشصار (ح): مضبوط اور حرکت کرنے کے قابل ہرن کا چھوٹا بچہ۔ (ح): ایک چھوٹا پرندہ۔ ـــ والشوصَر من الظباء: بمعنی شاصر۔

شصا: ا۔ شَصَا ۔ شُصُوًّا و شَصِي يَشْصَى شُصِيًّا البصرُ: نگاہ کا پتھرانا۔ ـ السحابُ: بادل کا اونچا ہونا۔ ـــ تِ القربةُ: مشک کا پانی سے بھر کر خوب تن جانا۔ ـ الميتُ: مردہ کے ہاتھ اور پاؤں کا اٹھ جانا۔ کہتے ہیں: شصا برجله: اُس نے اپنا پاؤں اٹھایا۔ أَشْصَى بصرَہ: ٹکٹکی باندھنا۔

۲۔ الشَصْو: مسواک، سختی، شدت۔

شَطَّ: ا۔ شَطَّ ۔ شَطًّا و شُطُوطًا: دور ہونا۔ ـــ فلانًا بفلان: پر ظلم کرنا، کو دور کرنا۔ ـــ ۔ شَطَطًا: زیادتی کرنا، حق سے دور ہونا۔ ـ في سِلْعَتِه: چیز کی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مقررہ انداز سے آگے بڑھنا اور اسے بیش قیمت کرنا۔ ـــــ علیه فی قوله و حکمه: پر ظلم کرنا۔ شَطَّط: زیادتی میں مبالغہ کرنا۔ ـــــ المرکبُ عند البحرية: جہاز کا ساحل کے قریب زمین میں اتنا دھنس جانا کہ اُسے وہاں سے ہٹانا ممکن نہ ہو۔ شَاطَّ ہٗ: حد سے تجاوز کرنے میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ أَشَطَّ إِشْطَاطًا و اشْتَطَّ إِشْتِطَاطًا: زیادتی کرنا اور حد سے آگے بڑھنا۔ حق سے دور ہونا ـــــ علیه: پر ظلم کرنا۔ اسی سے ہے: فاحکم بيننا بالحق ولا تُشْطِط: یعنی حکم میں ظلم نہ کر۔ الشطّ جمع شُطُوط و شُطَّان: دریا یا سمندر کا کنارہ یا ساحل۔ ـــــ جمع شُطُوط: کوہان کا پہلو۔ الشَطَّه: اسم مرة۔ الشِطَّة و الشَطَاط و الشِطاط و الشَطاطَة: دوری۔

۲۔ رجُلٌ شاطّ م شاطّة: سڈول بدن کا آدمی۔ جارية شَطَّةٌ: سڈول بدن کی متناسب الاعضاء لونڈی۔ الشَطَاط و الشِطَاط: خوش قامتی اور اعضاء کا تناسب۔

○ شَطَّ ـِ شَطَطا (فی): میں، کیساتھ افراط و تفریط سے کام لینا، مناسب حدود سے تجاوز کرنا، حد سے زیادہ، فزوں از حد، بہت زیادہ ہونا ـــــ عن: سے منحرف ہونا، ہٹنا، تجاوز کرنا ـــــ عن الموضوع: اصل موضوع سے ہٹ جانا، بھٹک جانا۔ اشتطّ فی: میں، کے ساتھ افراط و تفریط سے کام لینا، بہت دور تک چلا جانا، مناسب حدود سے بڑھ جانا، حد سے زیادہ، فزوں از حد، بہت زیادہ ہونا۔ شط جمع شُطُوط: کنارہ، ساحل، ساحل سمندر، ریتلا کنارہ، ریتلا ساحل۔ شطُّ العرب: عراق میں دجلہ اور فرات کے دریاؤں سے تشکیل پانے والے دریا کا نام، خلیج فارس پر اس دریا کے پار کا علاقہ۔ شَطَّة: کالی مرچ کی ایک قسم۔ شَطَط: حد سے فزوں، مناسب حدود سے بڑھا ہوا، حد یا ضرورت سے زیادہ، زبردستی چڑھائی، تجاوز، خلاف ورزی۔ شَطِيْطَة: کالی مرچ کی ایک قسم۔ مُشِطّ: حد سے زیادہ، فزوں از حد، بہت زیادہ۔

شطا: شَطَأَ ـَ شَطْأً و شُطُوءًا: کنارہ یا ساحل پر چلنا۔ شَطَّأَ تَشْطِيئًا النهرُ: دریا کا دونوں کناروں پر بہنا۔ شَاطَأَ ہٗ: ایک دوسرے کے ساتھ دریا کے کنارہ پر چلنا۔ أَشْطَأَ الوادی: وادی کا دونوں کناروں پر بہنا۔ کہتے ہیں: ملنا لوادی کذا فوجدنا مُشْطِئًا: ہم وادی کی طرف واپس آئے تو اس کو دونوں کناروں پر بہتے پایا۔ الشَطْءُ جمع شُطُوء: کنارہ۔ الشَاطِیء من النهر: جمع شَوَاطِیء و شُطْآن: دریا کا کنارہ: آپ کہتے ہیں: شَاطِی الاودیه: وادیوں کا کنارہ۔ (اس کی جمع نہیں آتی)۔ ـ من البحر: ساحل سمندر۔

۲۔ شَطَأَ ـَ شَطْأً و شُطُوءًا الدابةَ بالحمل: جانور پر بوجھ لادنا۔ ـ فلانًا: فلاں کو مغلوب کرنا۔

۳۔ شَطَأَ ـَ شَطْأً و شُطُوءًا تِ الأمُّ بالولد: ماں کا بچہ گرانا (اسقاط حمل کرنا)۔ شَطَّأَ الزرعُ: کھیتی میں بالی آنا۔ أَشْطَأَ الزرعُ: کھیتی میں بالی آنا ـــــ الشجرُ بغصونه: درخت کا ٹہنیاں نکالنا۔ الشَطْءُ و الشَطَأُ جمع أَشْطَاء: کھیتی کے پتے، درخت خرما کے پودے ـــــ من الشجر: درخت کی جڑوں کے گرد نکلنے والی شاخیں۔

۴۔ أَشْطَأَ الرجُلُ: کو زکام ہونا۔ الشُطْأَة: زکام۔

شطب: ۱۔ شَطَبَ ـُ شَطْبًا الشیءَ: کسی چیز کو کاٹنا یا لمبائی میں پھاڑنا ـــــ ہٗ و شَطَبَ فوقَهٗ: پر لکیر کھینچنا۔ کہتے ہیں: شَطَبَ الكاتبُ العبارةَ: لکھنے والے کا عبارت قلمزن کرنا، پر خط تنسیخ پھیرنا۔ شَطَّبَ ہٗ: کے ٹکڑے کاٹنا۔ تَشَطَّبَ: ٹکڑوں میں کٹنا ـــــ و إنْشَطَبَ الماءُ و نحوه: پانی وغیرہ کا بہنا۔ الشَطْب ج شُطُوب (مص): لمبا خوبصورت قد و قامت والا، درخت خرما کی نازک اور سبز شاخ۔ الشَطْبَة: غلط عبارت پر کھینچی ہوئی لکیر۔ خط تنسیخ۔ (ح): اچھے گوشت والا گھوڑا؛ لمبی خوبصورت لڑکی ـــــ جمع شُطَب: تلوار ـــــ من النخل: کھجور کی سبز شاخ۔ الشِطْبَة: لمبی خوبصورت لڑکی۔ (ح): اچھے گوشت والا گھوڑا ـــــ و الشُطْبَة و الشُطَبَة جمع شُطَب: طریقہ یا تلوار وغیرہ کی دھار کا خط۔ الشَطِيْبَة جمع شَطَائِب: اونٹ کی کوہان کا لمبائی میں کٹا ہوا ٹکڑا۔ سَيْفٌ مُشَطَّب: دھاری دار تلوار۔ رجُلٌ مُشَطَّب: تلوار وغیرہ کی ضرب کے منہ پر نشان والا آدمی۔ سيفٌ مَشْطُوبٌ: دھاری دار تلوار۔

۲۔ شَطَبَ ـُ شُطُبًا الرجُلُ: دور ہونا ـــ عنه: سے بے رغبت ہونا ـ الرمحُ عن مقلته: نیزہ کا نشانہ خطا کرنا۔

۳۔ الشطائِب: مختلف گروہ، شدائد، مصائب۔

○ شَطَبَ ـُ شَطْبًا ہ: کو ٹکڑوں میں یا پٹیوں میں کاٹنا۔ ـــــ ہ/علی: کو کاٹنا، قلمزن کرنا، منسوخ کرنا ـــــ ہ/علی: کو مٹانا، محو کرنا۔ شَطَّبَ فی: میں چیرا دینا، کو لمبائی میں کاٹنا ـــــ ہ/علی: کو کاٹنا، قلمزن کرنا، منسوخ کرنا ـــــ ہ/علی: (رہن) منسوخ کرنا [illegible] کرنا، کھاتے میں اندراج کرنا۔ علی: کو ختم کرنا۔ تشطيب الحسب: حساب میں اندراج۔ ساعة التشطيب: کرفیو curfew۔

شطر: ۱۔ شَطَرَ ـُ شَطْراً الشیءَ: چیز کو دو برابر حصوں میں کرنا ـــــ بيت الشِعر: شعر کا نصف حذف کرنا ـــــ الناقةَ او الشاةَ: اونٹنی یا بکری کا نصف تھن دوہنا ـ شُطُورًا تِ الناقةُ: اونٹنی کے تھن کے ایک حصہ کا لمبا ہونا ـــــ بصرُهٗ: ترچھا یا بھینگا دیکھنا ـــــ شُطُورَةً ت الناقةُ: اونٹنی کے تھن کے ایک حصہ کا لمبا ہونا۔ شَطَّر الشیءَ: چیز کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، چیز کے دو حصے کرنا ـ الشِعر: شعر کے ہر مصرعہ پر دوسرا مصرعہ بڑھانا ـــــ الناقةَ و بالناقة: اونٹنی کے نصف تھن کو دوہنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا۔ شَاطَرَہٗ مالَهٗ: مال کو آدھا آدھا تقسیم کر لینا۔ الشطر (مص) جمع أَشْطُر و شُطُور: (چیز کا ایک) جز، نصف۔ شطرُ بيت الشعر: شعر کا ایک نصف۔ للناقة شطران قادمان و آخران و کلّ خِلْفَيْنَ شطرٌ: اونٹنی کے دو شطر اگلے پچھلے ہیں اور دونوں تھنوں میں سے ہر ایک شطر ہے۔ کہتے ہیں: حلب أَشْطُرَ الدهر: اس نے زمانہ کو خوب آزمایا اور اس کی اچھائی برائی سے واقف ہوا۔ هذا حَلَبٌ لك شَطْرُہٗ: یہ ایسا کام ہے جس میں فریقین کے لئے نفع ہے۔ الشِطرة: نوع، قسم۔ کہتے ہیں: اولادُ فلان شِطْرَةٌ: فلاں کی اولاد میں (آدھے لڑکے اور آدھی لڑکیاں ہیں)۔ الشَطْران م شَطْرَیٰ: صرف آدھا بھرا ہوا۔ الشَطُور من النعاج او النوق: ایک تھن دوسرے سے لمبا یا ایک تھن خشک رکھنے والی بھیڑ یا اونٹنی۔ ثوبٌ شَطُور: وہ کپڑا جس کی ایک طرف دوسری سے لمبی ہو۔ الشَطِير: نصف۔ کہتے ہیں: هذا شَطْرُہٗ و شَطِيرُہٗ: جیسے کہتے ہیں: نصفُهٗ و نصيفُهٗ: مراد یہ اس کا آدھا ہے۔

۲۔ شَطَرَ ـُ شُطُوراً ت الدارُ: دور ہونا ـــــ شُطُوراً و شُطُورةً و شَطَارَةً عنهم: سے جدا ہونا اور دور ہونا ـــــ اليهم: پر متوجہ ہونا ـــــ علی اهله: شرارت سے اپنے اہل کے خلاف چلنا۔ شَاطَرَ فلانًا: کا کسی کے گھر کے پاس گھر ہونا۔ الشَطْر جمع أَشْطُر و شُطُور: دوری۔ نوًی شُطُرٌ: دور منزل۔ الابنُ الشاطِر: اپنے والد کی نافرمانی کی وجہ سے آوارگی میں دور رہ کر واپس آنے والا بیٹا۔ دارٌ شَطُورٌ: دوسرے گھروں سے علیحدہ مکان۔ الشطير جمع شُطَرَاء و شُطُر: دور، اکیلا، مسافر۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۳۔ شَطَرَ ۔ شَطْراً شَطْرَ فلانٍ: کی جانب کا قصد کرنا۔ الشَطر جمع أَشْطُر و شُطُور: طرف، کنارہ۔ شَطَرَ شَطْرَهُ: کی جانب کا قصد کرنا۔ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِد: اپنا چہرہ مسجد کے مقابل پھیرو۔

۴۔ شَطُرَ ۔ شطارَةً: چالاک اور خبیث ہونا۔ الشاطر (فا) جمع شُطَّار: ہوشیار چالاک، فریبی، مکار، شریر۔

○ شَطَرَ ۔ شَطْراً ہ: کو آدھا کرنا، کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ ۔۔ ہ: کو کاٹنا، جدا کرنا۔ شطرَ بصرُهُ ۔ُ شُطُوراً: بھینگا ہونا۔ ۔ُ شُطُوراً و شطورةً و شطارةً عن: سے پیچھے ہٹنا، علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ ۔ شَطُوراً و شَطارَةً: عیار، مکار، فریبی، چالباز، چالاک، ہوش مند، زیرک، ماہر، کاری گر ہونا۔ شَطَّرَ ہ: کو آدھا کرنا، دو برابر حصہ میں تقسیم کرنا۔ شاطَرَهُ ہ: کے ساتھ کسی چیز کے دو برابر حصوں کا حصہ دار ہونا۔ ۔۔ ہ: میں حصہ لینا، شریک ہونا۔ شاطَرَهُ آراءَهُ، فرحَهُ: کے آراء یا خوشیوں میں اس کا شریک ہونا۔ تَشَطَّرَ: عیاری، چالاکی، تیز طبعی، بانکپن، مستعدی، ہوشیاری، کے آثار ظاہر کرنا۔ انشطر ہ: میں تقسیم ہونا، میں لمبائی کے رخ پھٹنا۔ شَطْر: تقسیم، جدائی، علیحدگی، تنصیف، نصف، آدھ جمع شُطُور و أَشطر: ایک آدھا نصف ایک طرح کی کشیدہ کاری، سخاف کاری حصہ، طرف۔ شَطْرَ: کی طرف، کی جانب۔ قَصَدَ شطرہ: کی طرف جانا۔ وَلّى انظارَهُ شطرَہ: کی طرف نظر کرنا۔ وَلّى وَجهَهُ شطرَہ: کی طرف اپنا رخ پھیرنا۔

۵۔ الشِطْرَنج جمع شِطْرَنْجات: شطرنج۔ (ایک مشہور کھیل (فارسی سے معرب ہے)

○ لوحة الشِطْرَنج: شطرنج کی بساط۔

شطس: شطس ۔ شَطْساً فی الارض: زمین میں سفر کرنا۔ الشطس (مص): چالاکی، دانائی، عقلمندی۔ الشُطْس و الشُطُسة: مخالفت، عناد، دشمنی۔ الشَطوس: ہر طرف جانے والا، حکم کی خلاف ورزی کرنے والا۔

شطع: شَطِعَ ۔ شَطَعًا الرجلُ: بیماری وغیرہ کی وجہ سے گھبرانا۔

شطف: ۱۔ شَطَفَ ۔ شَطْفًا الرجلُ: چلے جانا، دور ہونا۔ ۔۔ عن الشيء: سے ہٹنا، ایک طرف ہونا۔ سهمٌ شاطفٌ: نشانہ پر نہ لگنے والا تیر۔ نيّةٌ شَطُوف: ارادہ دور، بے پایاں۔

۲۔ شَطَفَ ۔ شَطْفًا ثوب وغیرہ: کپڑا وغیرہ دھونا

۳۔ شَطَّفَ الحطبَ: جلانے کی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا (عام زبان میں)۔ الشُطْفَة من الشيء جمع شُطَف: ٹکڑا۔

○ شُطْفة جمع شُطَف: چقماق۔ شِطْفة: کرچ، چھپٹی، ٹکڑا، ریزہ، قاش۔

شطن: ۱۔ شَطَنَ ۔ شَطْناً هُ: کی مخالفت کرنا، کو دور کرنا۔ ۔۔ فی الارض: ملک میں داخل ہونا۔ ۔۔ شُطُوناً تِ الدارُ: گھر کا دور ہونا۔ ۔۔ الرجلُ: حق وغیرہ سے دور ہونا۔ شَيْطَنَ شَيْطَنَةً و تَشَيْطَنَ: شیطانی کام کرنا۔ أَشْطَنَ هُ: کو دور کرنا۔ الشاطِن (فا): حق سے منحرف، شریر، خبیث۔ بئرٌ شَطُونٌ: گہرا کنواں۔ نِيَّةٌ شَطُونٌ: ارادۂ بعید۔ رمحٌ شطونٌ: لمبا ٹیڑھا نیزہ۔ الشطين: دور۔ الشيطان جمع شياطين: بدروح، ہر سرکش و نافرمان خواہ انسان ہو یا جن یا جانور۔ شياطين العرب: عرب کے نافرمان و سرکش لوگ۔ (ح): سانپ۔ شَيْطانُ الشعرِ عند العربِ الاقدمين: قدماء عرب کے نزدیک شاعر کو شعروں کی وحی کرنے والا شیطان۔

۲۔ شَطَنَ ۔ شَطْناً هُ: کو رسی سے باندھنا۔ الشَطَن جمع أَشْطان: رسی۔ حربٌ شَطُونٌ: بہت سخت جنگ۔

۳۔ شيطانُ الفلا: پیاس۔ مُخاطُ الشَيْطان: ترمرے۔ شَياطِينُ الرأس: غصہ کا جوش۔ کہتے ہیں: ركبه شيطانه: شیطان اس پر سوار ہوا یعنی وہ غضبناک ہوا۔

○ شَطَنَ ۔ شَطْناً ہ ب: کو رسی سے باندھنا، جوڑنا، لگانا، کو سے نتھی کرنا، منسلک کرنا۔ تَشَيْطَنَ: شیطان کی طرح پیش آنا، رویہ اختیار کرنا۔ شيطان جمع شياطين: شیطان، ابلیس، بھوت پریت، آسیب، خبیث روح، سخت برا آدمی۔ شيطاني: شیطانی، برا، شیطنت والا، ابلیسانہ، نہایت ظالمانہ، ملعون، لعنتی، شیطان کا سا، شیطان سیرت، آسیب زدہ، عفریتی، آسیبی، بھوت پریت کا، جہنمی، دوزخی، نفرت انگیز۔

شطي: شَطِيَ ۔ شُطِيًّا: بمعنی شصي۔ شَظّى تَشْظِيَةَ الشاةَ: بکری کی کھال اتار کر اس کے گوشت کو جدا کرنا۔ إنشَطى الشيءُ: شاخ دار ہونا، متفرق ہونا، جدا جدا ہونا۔

شظ: ۱۔ شَظَّ ۔ شَظًّا القومَ: لوگوں کو منتشر کرنا، دھتکارنا۔ شَظَّظَ و أَشَظَّ القومَ: لوگوں کو منتشر کرنا، دھتکارنا۔ الشَظّ (مص) جمع أَشْظاظ: باقی ماندہ دن۔ الأَشظاظ والشَظاظ: کہتے ہیں: طاروا أشظاظًا او شَظاظًا: وہ ہر طرف منتشر ہو گئے۔

۲۔ شَظَّ ۔ شَظًّا و أَشَظَّ الجُوالقَ: ٹیڑھے سرے کی لکڑی کو بورے کے دونوں گوشوں میں باندھنا۔ الشِظاظ جمع أَشِظَّة: ٹیڑھے سرے کی لکڑی جو بورے کے گوشوں داخل ہو۔

۳۔ شَظَّ ۔ شَظًّا الامرُ: کسی معاملہ کا پر شاق ہونا۔ الشَظِيظ جمع أَشْظاظ: بندھا ہوا بورا، چری ہوئی لکڑی۔

شظف: ۱۔ شَظَفَ ۔ شَظْفًا هُ عن كذا: کو سے منع کرنا، روکنا۔ الشِظاف: بعد، دوری۔

۲۔ شَظِفَ ۔ شَظَفًا العيشُ: گزران کا تنگ ہونا۔ ۔۔ الرجلُ: کی زندگی کا تنگ ہونا۔ صفت: شَظِفُ العيش۔ ۔۔ تِ اليدُ: ہاتھ کا کھردرا ہونا۔ شَظِفَ ۔ُ و شَظُفَ ۔ شَظافَةً الشجرُ: درخت کا سخت ہونا، صفت: شَظِيف۔ الشَظْف (مص): لاٹھی کی پھنن۔ الشَظَف (مص) ج شِظاف و الشَظاف: تنگی، سختی، روٹی کی خشکی اور سختی۔ الشِظْف جمع شِظَفَة: خشک روٹی، کھونٹی جیسی لکڑی۔ الشَظِف: بد خلق، سخت جنگجو۔ عودٌ شَظِفٌ: ٹوٹی ہوئی لکڑی۔ أرضٌ شَظِفَة: سخت اور خشک زمین۔

۲۔ شَظِفَ ۔ شَظَفًا السهمُ: تیر کا کھال اور گوشت کے درمیان میں گھسنا۔

۳۔ المِشْظَف: بے ارادہ بولنے والا۔

○ شَظَف جمع شِظاف: بے کلی، الجھن، بے چینی، بے آرامی، سختی، مشکل، زندگی کی کرختگی۔ اقام علی شظفِ العيش: مصائب کی زندگی بسر کرنا۔ شَظِف: سخت، ناہموار، اکھڑ، سادہ (زندگی، کردار)

شظي: ۱۔ شَظِيَ يَشْظَى شَظًى: پھٹنا۔ ۔۔ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا۔ شَظّى تَشْظِيَةً القومَ: قوم کو پراگندہ کرنا، متفرق کرنا۔ ۔۔ الفرسَ: گھوڑے کے گھٹنے کی باریک ہڈی کو پھاڑنا۔ اشظى ہ: کے گھٹنے کی باریک ہڈی پر مارنا۔ تشظّى: پھٹنا، متفرق ہونا۔ ۔۔ العودُ: لکڑی کے ٹکڑے اڑنا۔ شاعر کہتا ہے: كالتُرَّتين تشظَّى عنهما الصَدَفُ: ان دو موتیوں کی طرح جن سے سیپی جدا ہو گئی ہو۔ إنشظى: پھٹنا۔ الشَظَى (مص): گھٹنے یا بازو کے اگلے حصہ کی پتلی اور چھوٹی ہڈی یا ان کے چھوٹے چھوٹے پٹھے۔ قوم کے پیرو، قوم میں اجنبی لوگ۔ الشَظِيَّة جمع شَظايا و شَظى (ع ا) پنڈلی کی ہڈی، لکڑی اور

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بڈی وغیرہ کا ٹکڑا۔ کمان۔

۲۔ شَظِیَ - شَظًی السِقاءُ: مشک کا پانی بھرنے سے تن جانا۔ ــ المیتُ: میت کے ہاتھ پاؤں کا اٹھنا۔

○ شَظِيَ - شظًی و تَشَظَّی: (چھپٹی، کرچ وغیرہ) کا اُڑنا، بکھرنا، ریزہ ریزہ ہونا۔

شعّ: ا۔ شَعَّ - شَعًّا و شَعَاعًا الماءُ: پانی کا پھیلنا۔ ــ الماءَ: پانی بکھیرنا۔ کہتے ہیں: شَعَّ الغارةَ علیهم: اس نے ان پر غارت ڈالی (لوٹ مار کی)۔ أَشَعَّ إشْعَاعًا الماءَ و نحوهُ: پانی وغیرہ بکھیرنا۔ ــ ت الشمسُ: سورج کا اپنی کرنیں پھیلانا۔ إنْشَعَّ الذئبُ في الغنم: بھیڑیے کا بکریوں میں تباہی مچانا۔ الشَّعَاع (مص) خون وغیرہ کا بکھرنا، ہر بکھری ہوئی چیز۔ کہتے ہیں: ضربت بالعصا على الحائط فتطايرت شَعَاعًا میں نے دیوار پر لاٹھی ماری تو وہ ٹوٹ گئی اور اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ ذهب القومُ شَعَاعًا لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔ طار قلبُهُ شَعَاعًا: اس کا دل غموں سے پراگندہ ہو گیا۔ طارت نفسُهُ شَعَاعًا: اس کا دل خوف وغیرہ سے پراگندہ ہو گیا۔ الشُّعَاع جمع أَشِعَّة و شُعُع و شِعَاع: سورج کی کرن۔ (ھ): سیدھی لکیر کا ٹکڑا۔ شُعاع الدائرة (ھ): مرکز اور دائرے کے نقطہ کے مابین تعلق قائم کرنے والے دائرہ کے خط مستقیم کا ٹکڑا، نصف قطر۔ الشِّعاع: شعاعیں بھیجنے کا آلہ۔ شُعُّ الشمس: سورج کی کرن۔ الشَّعّ من كل شيء: ہر متفرق چیز۔ الشُّعَاعِيات (ح) گہرے سمندروں میں رہنے والے خوردبینی جانور۔ المُشِعّ جمع مُشِعّات (ف): تابکار، وہ چیز جو شعاعیں نکالتی یا ڈالتی ہو جیسے ریڈیم، اورنیم وغیرہ، تابکار، ریڈیو ایکٹو radio-active.

۲۔ أَشَعَّ إشْعَاعًا الزرعُ (ز): کھیتی کا خوشہ نکالنا۔ ــ السنبلُ (ز): بالی کا دانوں سے پُر ہونا۔ الشَّعَاع من اللبن: زیادہ پانی ملا ہوا دودھ۔ شَعَاعُ السنبلِ: خوشہ کا خار۔ شُعَاع شِعَاعٌ و شَعُّ السنبل: خوشہ کا خار۔

۳۔ شَعَّ - شَعًّا و شَعِيعًا: تیزی کرنا، جلدی کرنا۔ الشَّعّ و الشَّعِيع: جلدی۔

۴۔ الشُّعّ: مکڑی کا جالا۔ الشَّعَاع: ہلکا سایہ۔

○ شَعَّ - شَعًّا و شعاعًا: منتشر ہونا، بکھرنا، پھیلنا، نفوذ کرنا، چمکنا، چمک اٹھنا، شعاعیں نکالنا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا۔ أَشَعَّ ھ: کو نکالنا، خارج کرنا، پھیلانا، منتشر کرنا؛ کرنیں یا شعاعیں خارج کرنا، نکالنا، مرکز سے پھیلنا، چمکنا، چمک اٹھنا۔ تَشَعَّعَ: شعاعیں یا کرنیں نکالنا، ڈالنا۔ شُعَّ: کرنیں، شعاعیں۔ شَعَاع: سراسیمہ، بٹے ہوئے خیال والا، گھبرایا ہوا، پریشان، حیران، الجھا ہوا۔ شُعاع اسم جمع واحد شُعَاعَة جمع أَشِعَّة: کرنیں، شعاعیں (پہیئے کا) تار۔ الأَشِعَّةُ فوق البَنَفْسَجِيَّة ماورائے بنفسجی شعاعیں ultra violet rays: الأَشِعَّة التي تحتَ الأَحْمَر: the infra red rays ماورائے احمر یا تحت احمر شعاعیں۔ صورة أشِعَّة: ایکسرے فوٹو۔ فاعلية الأشعة: تابکاری radioactivity۔ إشْعَاعي: تنویری، درخشاں۔ تَشَعُّع: تنویر، درخشانی۔ التشعع الحراري: حرارت کی درخشانی۔ التَّشَعُّع الشمسي: شمسی تنویر۔ مُشِعَّة: radiator (1) حرارت: (heater) حرارت کُش (آلہ) (انجن ٹھنڈا کرنے کا آلہ)۔

۵۔ شَعْشَعَ الشرابَ: شراب میں پانی ملانا۔ ــ الشيءَ: کسی چیز کے بعض کو بعض کے ساتھ ملانا۔ تَشَعْشَعَ الشهرُ: مہینہ کا اکثر حصہ گزر جانا۔ الشُّعْشُع و الشَّعْشَع و الشَّعْشَاع و الشَّعْشَعَان و الشَّعْشَعَانِي: لمبا، دانا، زیرک، سبک۔ ــ من الظلّ: ہلکا سایہ۔ الشُّعْشُوع (ن): بن کی نئی سرخ رنگ کی تازہ اور مزیدار شاخ۔

۶۔ شَعْشَعَت الشمسُ: سورج کی روشنی کا پھیلنا۔ ــ الضوءُ: روشنی کا پھیلنا۔ ــ عليهم الخيلَ: پر سواروں سے حملہ آور ہونا۔

○ شَعْشَعَ (ھ): مشروب میں پانی ملانا، کو پانی ملا کر ہلکا کرنا۔ ــ: چمکنا، دمکنا، شعاعیں نکالنا۔ مُشَعْشَع: آدھا نشے میں، آدھا پیے ہوئے۔

شعب: شَعَبَ - شَعْبًا الشيءَ: کو جمع کرنا، متفرق کرنا (ضد) پھاڑنا۔ ــ فلانًا: کو مشغول کرنا۔ ــ اللجامُ الفرسَ: لگام کا گھوڑے کو اس کے راستہ پر جانے سے روکنا اور پھیرنا۔ ــ الشيءُ: ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ ــ القومُ: لوگوں کا متفرق و منتشر ہونا۔ ــ إلى القومِ: ساتھیوں کو چھوڑ کر قوم کی طرف رخ کرنا۔ ــ الأميرُ رسولاً إلى موضع كذا: امیر کا کسی کو ایلچی بنا کر کسی جگہ بھیجنا۔

شَعِبَ - شَعَبًا الرجلُ او الثورُ: آدمی کے دونوں شانوں اور بیل کے دونوں سینگوں میں فاصلہ ہونا۔ شَعَّبَ عنه: سے ہمیشہ کے لئے جدا ہونا۔ شَاعَبَ صاحِبَهُ: ساتھی سے جدا ہونا، دور ہونا۔ أَشْعَبَ عنهُ: سے ہمیشہ کے لئے جدا ہونا۔ تَشَعَّبَ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا۔ ــ الزرعُ: کھیتی کا شاخ دار ہونا۔ ــ النهرُ: نہر کی کئی شاخیں نکلنا۔ ــ عنه: سے دور ہونا۔ ــ ت اغصانُ الشجرة: درخت کی شاخوں کا ادھر ادھر پھیل جانا۔ تَشَعَّبَتْهُم الفتنةُ: فتنہ و فساد کا لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا یا متفرق کرنا۔ إنْشَعَبَ عنه: سے دور ہونا۔ ــ ت أغصانُ الشجرة: درخت کی ٹہنیوں کا جڑ سے پھوٹنا۔ ــ الطريقُ او النهرُ: راستہ یا نہر کا پھٹنا۔ ــ ت القولُ: بات میں بات نکلنا۔ الشَّعْبُ جمع شُعُوب: دور، دوری، کہتے ہیں: ماءٌ شَعْبٌ: دور پانی، لوگوں کی ایک جماعت۔ الشِّعْب جمع شِعاب: پہاڑی راستہ، درہ کوہ، پانی کا راستہ، کنارہ، کونہ۔ الشَّعْبُ (مص) جمع شُعُب و شِعاب: دونوں کندھوں یا سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔ کہتے ہیں: شَغَلَتْ شِعابي جدواه: اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے نے مجھے دوسروں پر فضل و کرم سے مشغول رکھا۔ الشُّعْبَة جمع شُعَب و شِعاب: فرقہ، گروہ۔ (کہا جاتا ہے: إشْعَبْ لي شُعْبَةً من المال: مجھے اپنے مال کا ایک ٹکڑا دو)، پہاڑ کی دراڑ، درخت کی شاخ۔ دو شاخوں یا سینگوں کے درمیان کا فاصلہ، پانی بہنے کی جگہ، وادی کی بڑی نالی۔ شُعَبُ الدهر: حالات زمانہ۔ ــ اليد: انگلیاں۔ ــ السفّود: سیخ کے دندانے جن میں گوشت بھوننے کے لئے لگاتے ہیں۔ ــ الفرس: گھوڑے کا سر اور پیٹھ کا اوپر کا حصہ جو دونوں کندھوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ــ الجسم: ہاتھ پاؤں۔ کہتے ہیں: هذه مسألة كثيرةُ الشُّعَب: یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کئی نتائج نکلتے ہیں۔ شُعْبَتا الرَّحْل: کجاوہ کا آگے اور پیچھے کا حصہ۔ الأَشْعَب م شَعْبَاء جمع شُعْب: دونوں شانوں یا سینگوں کے درمیان بہت فاصلہ رکھنے والا، ٹوٹے سینگ والا۔ الشاعبان: دونوں کندھے۔ شَعْبان جمع شعابين و شَعْبانات: قمری مہینوں کا آٹھواں مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ اس کے ۲۹ دن ہوتے ہیں۔ غیر منصرف ہے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینہ میں عرب پانی کی طلب میں متفرق ہو کر نکل جاتے ہیں۔ المَشْعَب ج مَشَاعِب: راستہ: کہتے ہیں: هذا مَشْعَبُ الحق: یہ حق کا راستہ ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز ہوتا ہے۔

۲۔ شَعَبَ - شَعْبًا الشيءَ: کو اکٹھا کرنا، جدا کرنا (ضد)، درست کرنا، خراب کرنا (ضد)۔ تَشَعَّبَ و إنْشَعَبَ الشيءُ: چیز کا درست ہونا۔ الشَّعْب ←

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شُـعُـوب: سر کے ٹکڑوں کے جوڑ کی جگہ، دراڑ۔ (کہتے ہیں: التـأم شَـعْبُهُـمْ: وہ متفرق اور منتشر ہونے کے بعد اکٹھے ہو گئے) بڑا قبیلہ، عربوں کا بڑا طبقہ، (یہ طبقے مندرجہ ذیل ہیں: شعب، قبیلہ، عمارۃ، بطن فخذ، فصیلہ، شعب قبائل کا مجموعہ ہے۔ اسے بڑا طبقہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ قبائل اس کی شاخیں ہیں، قبیلہ عمائر کا مجموعہ ہے عمارۃ بطون کا اور بطن افخاذ کا جبکہ فخذ فصائل کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ خزیمہ شعب ہے، کنانہ قبیلہ قریش عمارۃ و قصی بطن، ھاشم فخذ اور عباس فصیلہ ہے۔ اس میں ایک ساتواں طبقہ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اور یہ ساتواں طبقہ عشیرۃ ہے اس سے مراد باپ کے قریب ترین بیٹے ہیں)۔ مثل: (کہتے ہیں: ھـما شَعْبان: وہ مثل ہیں) لیُـعْـب ج شِعاب: بڑا محلّہ۔ الشَّعّاب: دراڑ کو جوڑنے والا۔ الشُّعُوبِيَّة: واحد شُعُوبِي: ایک فرقہ جو عرب کو عجم پر ترجیح نہیں دیتا۔ الشِعَابَة: شعّاب کا پیشہ۔ الشَعِيب جمع شُعُب: پرانی مشک، پالان، توشہ دان۔ المُشَعَّب: درست کیا ہوا۔ المِشْعَب جمع مَشَاعِب: سوراخ کرنے کا اوزار، برما۔

۳۔ شَعَبَ ـ شَعْبًا الرجلُ: مرنا۔ ــ ه المنيَّةُ: کو موت کا اچانک آلینا۔ شَاعَبَ ت نفسُهُ: مرنا۔ ــ الحيوةَ: زندگی کو ہلاک کرنا۔ أَشْعَبَ الرجلُ: مرنا۔ اِنْشَعَبَ الرجلُ و اِنْشَعَبَتْ نفسُهُ: مرنا۔ شَعُوب: موت، غیر منصرف ہے۔

۴۔ شَعْبَذ: شعبدہ بازی کرنا (دیکھو شعوذ)

○ شَـعَّبَ هـم / (ه): کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا؛ کو متفرق کرنا، منتشر کرنا، بکھیرنا۔ شَـعَّبَ ه: کو شاخ در شاخ کرنا، کی شاخیں نکالنا، کو شاخوں یا سب ڈویژنوں میں تقسیم کرنا۔ تَشَـعَّبَ: شاخیں نکلنا، تقسیم در تقسیم ہونا، راہیں الگ ہونا، جدا ہونا، مختلف جہتوں میں حرکت کرنا، سے الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، متفرق ہونا، منتشر ہونا، سے شاخ نکلنا، کا نتیجہ ہونا۔ شَعْب جمع شُعُوب: لوگ، عوام، قوم، قبیلہ، نسل۔ شِعب جمع شِعاب: پہاڑی راستہ، پہاڑی پگڈنڈی، تنگ گھاٹی، گہری گھاٹی، کھڈ، گہری کھڈ، خلیج، اتھاہ، گہرائی، سمندر میں سطح کے برابر اونچی چٹان۔ شِـعْـبَة: سمندر میں سطح کے برابر اونچی چٹان۔ شُـعْبَة جـمـع شُـعَـب و شِـعَـاب: شاخ ٹہنی، بازو یا ٹانگ، شاخ در شاخ ہونا، تفرع؛ کونپل، ٹہنی، ڈالی، چشمہ، سوتا، پھوار؛ کاٹنا، شاخ، سب ڈویژن، سیکشن، ڈیپارٹمنٹ، برانچ، سیل (cell)، مطالعہ کا میدان تعلیم کا شعبہ (discipline)، حصہ، جمع شُـعَـب: bronchus۔ التِهـاب الشُعَب: ورم زخرہ، قصبی ورم۔ شُـعَبِي: قصبی bronchial۔ أَشْعَب: ایک روایتی کنجوس کا نام۔ اطمع من أشعب: اشعب کنجوس سے زیادہ حریص۔ طَمعٌ اشعبي: بہت زیادہ لالچ۔ مُتَشَعِّب: کئی پہلوؤں والا، ہمہ گیر۔ شَـعْـبَـذ: شعبدہ بازی کرنا، کرتب دکھانا، ہاتھ کی صفائی دکھانا۔ شَعْبَذَة: شعبدہ بازی، کرتب، ہاتھ کی صفائی، جادو۔

شعث: ۱۔ شَعِثَ ـ شَعَثًا و شُعُوثَةً الشَعَرُ: بالوں کا غبار آلود اور بکھرے ہوئے ہونا (صفت) أَشْـعَث م شَـعْثَاء جمع شُعْث: پراگندہ بالوں والا۔ ــ شَـعَثَ الامـرُ: معاملہ کا پراگندہ ہونا۔ شَـعَّثَ الشيءَ: چیز کو بکھیرنا، پراگندہ کرنا۔ ــ الشاعرُ: شعر میں تشعیث لانا۔ ــ من فلان: سے چشم پوشی کرنا۔ ــ من الطعام: تھوڑا سا کھانا کھانا۔ ــ منه شَیْئًا: چیز لے لینا، نکال لینا۔ ــ ه بخير: کو بھلائی پہنچانا۔ تَشَعَّثَ: بکھرنا، پراگندہ ہونا۔ ــ الشَعَرُ: بالوں کا غبار آلود اور بکھرا ہوا ہونا۔ ــ الشِعْرُ: شعر میں تشعیث داخل ہونا۔ ــ من الطعام: کھانے میں سے تھوڑا سا کھا لینا۔ الشَـعْـث و الشَعَث: کام کی پراگندگی۔ کہتے ہیں: لَمَّ اللّٰه شَعَثَهُمْ: اللہ تعالیٰ نے ان کے امر کو جمع کر دیا۔ الشَعِث و الشَعْثان: بـمعنى الأشعث (غبار آلود اور بکھرے ہوئے بالوں والا)۔ التشعیث: علم عروض کی اصطلاح میں فاعلاتن کے وتد میں سے ایک متحرک حذف کر دینے کو کہتے ہیں اور وہ مفعولن میں منتقل ہو جاتا ہے۔

۲۔ شَعَّثَ عنه: کی مدافعت کرنا، حفاظت کرنا۔

شعر: ۱۔ شَعَرَ ـ شِعْرًا و شَعْرًا الثوبَ: کپڑے کے اندر بال لگانا یا بھرنا۔ شَعِرَ ـ شَعَرًا: لمبے اور زیادہ بالوں والا ہونا۔ شَعَّرَ الجنينُ: ماں کے پیٹ میں بچہ کے بال نکلنا۔ ــ الثوبَ و نحوه: کپڑے کے اندر بال لگانا یا بھرنا۔ أَشْعَرَ الجنينُ: ماں کے پیٹ میں بچہ کے بال نکلنا۔ ــ الثوبَ: کپڑے کے اندر بال لگانا یا بھرنا۔ ــ هُ الشِعارَ: کو شعار پہنانا، بدن سے لگنے والا کپڑا پہنانا۔ ــ ه بكذا: کو کے ساتھ چپکانا۔ کہتے ہیں: أشعَرَ الهمُّ قلبي: فکر و غم نے میرے دل کو پکڑ لیا۔ ــ ه شرًّا: کو شر سے ڈھانپ لینا۔ تَشَعَّرَ الجنين: ماں کے پیٹ میں بچے کے بال نکلنا۔ اِستَشْعَرَ الجنين: ماں کے پیٹ میں بچے کے بال نکلنا۔ ــ الشِعارَ: شعار پہننا۔ ــ بالثوب: کپڑے کو اور کپڑوں کے نیچے پہننا۔ الشَعْر ج أَشْـعار و شِعار و شُعُور واحد شَعْرَة جمع شَعَرات: بال۔ الشَعَر (مو): واکمن، سارنگی کے کمانچہ کے تار جن کو چھیڑ کر موسیقی پیدا کی جاتی ہے۔ ــ ج أَشْـعار و شِعار و شُعُور واحد شَعَرَة جمع شَعَرات: بال۔ الشَـعِـر و الشَعْرَانِي: لمبے اور گھنے بالوں والا۔ الشِـعْـرَة: بالوں کا ٹکڑا۔ ــ و الشِـعـراء: زیر ناف بال اُگنے کی جگہ۔ الشِـعَـار: وہ لباس جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ الشِـعَـار جمع أَشْعِرَة و شُعُر: جسم سے لگنے والا کپڑا، گھوڑے کی جھول۔ الشَعِيرَة: خنجر کے چھ بالوں کے برابر پیائش۔ الأَشْعَر م شَعْرَاء جمع شُعْر: گھنے اور لمبے بالوں والا۔ کہتے ہیں: فلانٌ أَشْعَرُ الرقبة: فلاں مضبوط گردن والا ہے گویا کہ شیر ہے۔ الشَـعْـرَاء جمع شُعْر: پوستین۔ المَـشْـعَر جمع مَشَاعِر: درخت کے نیچے سایہ لینے کی جگہ۔ إنـاءٌ مَـشْـعُـورٌ: تھوڑا سا پھٹا ہوا برتن (عام زبان میں)۔

۲۔ شَـعَرَ ـ شِـعْرًا و شَـعْرًا الرجُلُ: شعر کہنا۔ ــ لفلان: کسی کے لئے شعر کہنا۔ شَـاعَـرَهُ فَشَعَرَهُ: کے ساتھ شعروں میں مقابلہ کرنا اور اس کا اس پر غالب آنا۔ تَشَـاعَرَ: بناوٹی شاعر بننا۔ الشِـعـر (مص) جـمـع أَشعار: شعر، منظوم کلام، موزوں کلام۔ مثل ہے: اعذبُ الشعـر اكذبُه: شعر جتنا دلکش ہوتا ہی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے۔ الأَشْـعَـر: کہتے ہیں: هـذا البيـت أَشْعَر من هذا: یہ بیت اس بیت سے بہتر ہے۔ الشاعر (فا) جمع شُعَراء م شَاعِرَة جمع شَـوَاعِـر و شاعِرات: شاعر، شعر کہنے والا۔ شِعْرٌ شَاعِرٌ: عمدہ شعر۔ الشُعْرُور جمع شَعَارِير واحد شُعْرُورَة: بہت کمزور شاعر۔

۳۔ شَعَرَ ـ و شَعُرَ ـ شِعْرًا و شَعْرًا و شَعْرَى و شُعْرَى و شِعْرَى و شَعْرَةً بتثليث الشين شُعُورَةً و شُعُورًا و شُعُورَةً و مَشْعُورًا و مَشْعُورَةً و مَشْعُوراءَ بِه: کو جاننا، محسوس کرنا۔ و ــ له: کو سمجھنا۔ أَشْعَرَهُ الأمرَ و بالأمرِ: کو کی خبر دینا، کو سے آگاہ کرنا۔ ــ امرَ فلان: کے معاملہ کو مشہور کرنا۔ ــ الرَجُلَ: کو برے نام سے مشہور کرنا۔ الشِـعْـر (مص): علم، معرفت، آگاہی، کہتے ہیں: لَيـتَ شِعـرى فلانـًا اَوْ عن فلان او لِفلان ماصـنع: کاش میں جانتا ہوتا کہ فلاں نے کیا کیا۔ المَـشَـاعِـر: حواس۔ رجلٌ مَشْعُورٌ: پاگل، سودائی، احمق۔

۴۔ أَشْعَرَ القومُ: قوم کا اپنے لئے کوئی خاص علامت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مقرر کرنا، ایک دوسرے کو خاص علامت سے پکارنا۔ اِسْتَشْعَرَ القومُ: قوم کا لڑائی میں ایک دوسرے کو اپنی خاص علامت سے پکارنا۔ کہتے ہیں: اِسْتَشْعِرْ خوفَ اللّٰهِ: اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل کے لئے شعار بنالو۔ الشِعَار جمع أشْعِرَة و شُعُر: خاص لفظ جو فوج میں مقرر ہوتا ہے اور جس سے اپنے آدمیوں کو پہچانتے ہیں اور لڑائی کے وقت اس لفظ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ (اس کو سِرُّ اللیل بھی کہتے ہیں) لڑائی یا سفر میں مقررہ علامت۔ شِعَار الحجّ: حج کی علامات و رسوم۔ المملكةِ واحد شِعَارة: حکومت کی علامات۔ شعارُ الحج واحد شعارة: حج کی رسوم واحکام۔ الشعيرة جمع شعائر: علامت۔ شعائر الحج (بمعنی) حج کی رسوم واعمال ونشانات) کا واحد۔ المَشْعَر جمع مَشَاعِر: مناسک حج بجالانے کی جگہ۔

۵۔ اُشْعِرَ المَلِكُ: بادشاہ کا قتل ہونا۔

۶۔ الشَعَار: درختوں والی جگہ، گھنے اور گنجان درخت جہاں لوگ سردی کے موسم میں گرماہٹ حاصل کریں اور گرمیوں کے موسم میں سایہ لیں، درخت۔ الشِعَار جمع أشْعِرَة و شُعُر: کڑک، گنجان درخت۔ الشَعِير واحد شَعِيرَة (ن): جو۔ الشَعِيرَة (طب): آنکھ کی پلک میں جو نما نکلنے والی سوجن۔ الشَعِيري: جو کا، جو فروش۔ الأشْعَر جمع أشَاعِر: جانور کے کھر کے آس پاس کی کھال، ناخن کے نیچے نکلنے والا گوشت۔ الشَعْرَاء جمع شُعْر (ح): جانوروں پر بیٹھنے والی مکھی، لوگوں کی کثرت اور بھیڑ۔ (ن): ایک قسم کا آڑو۔ (ن): ایک ترش ذائقہ کا درخت۔ ۔ من الدواهي: سخت مصیبت۔ ارضٌ شعراء: بہت درختوں والی جگہ۔ رمالٌ شُعْراء: ریت جہاں عمدہ قسم کا چارہ اگتا ہو۔ الشِعْرَى (فلک): سخت گرمی میں طلوع ہونے والا ایک ستارہ۔ الشُعْرُوْر جمع شَعَارِير واحد شُعْرُوْرَة (ن): چھوٹی ککڑی۔ الشَعْرِيَّة جمع شَعْرِيات: لکڑی کی پٹیوں والی کھڑکی جس کی وجہ سے باہر والے اندر والوں کو نہیں دیکھ سکتے، چوبی جھروکہ۔ اسے مَشْرَبِيَّة بھی کہتے ہیں۔ المَشْعَر جمع مَشَاعِر: سایہ دار درخت۔

شَعَرَ ۔ شُعُوراً (ب): کو جاننا۔ ۔ أن: جاننا کہ۔ ۔ ب: سے آگاہ ہونا یا کی آگاہی حاصل کرنا: ۔ ب: کو دیکھنا۔ ۔ ان: دیکھنا کہ۔ ۔ ب: کو محسوس کرنا۔ ۔ أن: محسوس کرنا کہ۔ ۔ ب: سے واقف ہونا، باخبر ہونا۔ لَمْ يشعر اِلا ب ۔ و لم يشعر الاو ۔ ۔ وما شَعَرَ الاب و ما شَعَرَ الاو ۔ ۔: اس سے پہلے کہ اسے اس کا احساس ہوتا، اچانک..... تھا یا..... ہوا۔ أشْعَرَه ہ /ب: کو کچھ یا کے بارے میں جاننے دینا، کو کی یا کے بارے میں اطلاع دینا، کو کی اطلاع فراہم کرنا، کو کچھ بتانا، پر کچھ ظاہر کرنا۔ استشعر ہ /ب: کو محسوس کرنا، بھانپ لینا، سے واقف ہونا، آگاہ ہونا۔ ۔ ہ: کسی احساس سے مملو ہونا۔ شَعْر و شَعَر: (اسم جمع واحد شَعْرَة جمع اشعار و شُعُور و شِعَار: بال، پشم، پوستین۔ شَعْرَة (واحد) جمع شعرات: بال۔ لا قدرَ شعرة: بال برابر فاصلہ جتنا بھی نہیں۔ شَعْرِي شَعَرِي: بالوں سے بھرا ہوا، بالوں کا۔ شَعْرِيَّة جمع شعريات: تاروں کی جالی۔ شَعْرِيَة الشُبّاك: سایہ دار کھڑکی windowshade۔ شُعَيْرِيَّة: سویاں۔ شعراني: بالوں سے بھرا ہوا، لمبے موٹے بالوں والا۔ شِعر: علم، معرفت۔ لیتَ شعري: کاش میں جانتا جمع اشعار: شاعری، فن شاعری، شعر گوئی، نظم۔ شِعْرِي: شعروں میں، منظوم، شاعرانہ۔ شَعْرَى جمع شَعَارَى: جھاڑ جھنکار والا علاقہ۔ شِعار جمع شُعُر و أشْعِرَة: شناختی لفظ (password)، پہرے کا لفظ watch word، نعرہ، اصول عمل، ماٹو (motto)؛ نشان بطور علامت، نشانی، ٹوکن (token)، اشارہ، امتیازی نشان یا خصوصیت، علامت (emblem) بلا (badge)۔ شعارٌ تجاريٌّ: ٹریڈ مارک۔ تجارتی نشان۔ شُعَيْرِيَة: سویاں۔ شعور: علم، معرفت، واقفیت، آگہی، ادراک، نکتہ رسی بصیرت، قوت مدرکہ، احساس، جذبہ، ادراکیت، اثر پذیر مراج، مزاجی کیفیت۔ علی غیرِ شُعُورٍ منه: اس کے متعلق اس کی آگاہی کے بغیر، انجانے میں۔ غاب عن الشعور: بے ہوش ہو جانا۔ فاقدُ الشعور: بے ہوش۔ الشعور بالنفس: خود آگاہی، خود آگہی۔ الشعور بالذات: خود آگاہی، خود آگہی۔ دِقّة الشعور: احساس، اثر پذیری۔ الشعور المشترك: اجتماعی شعور، یکجہتی۔ عدیم الشعور: غیر حساس۔ شُعُوري: دانستہ، جذباتی۔ لاشُعُوري: نادانستہ۔ تحت الشعوري، نیم شعوری۔ شَعَارَى: بکریاں۔ شُعْرُور: تک بند (rhymester, poetaster)۔ شاعِرِيَّة جمع شاعِرِيّات: شاعری، شعر کہنے کی صلاحیت،

تنقیدیں، افتراءات، رسوائیاں، بدنامیاں۔ مَشْعُور: پھٹا ہوا، درزوں والا، پاگل، سودائی، احمق۔ مُشْعِراني: بالوں سے بھرا ہوا، موٹے اور لمبے بالوں والا۔ شُوَيْعِر: تک بند۔

شعف: ا۔ شَعَفَ ۔ شَعْفًا هُ الحُبُّ: محبت کا دل پر غلبہ پانا۔ ۔ بالقطران: کو قطران ملنا۔ ۔ الشيءُ الشيءَ: ایک چیز کا دوسری پر چڑھنا۔ شَعِفَ ۔ شَعَفًا بفلانٍ و بحُبِّ فلان: پر فریفتہ ہونا۔ شُعِفَ بفلانٍ: کسی کی محبت کا دل میں بیٹھ جانا، محبت میں بے خود ہونا۔ الشَعَف (مص): کوہان کی چوٹی۔ الشَعْفَة: اسم مرة۔ الشَعَفَة ج شَعَف و شُعُوف و شِعَاف و شَعَفَات: پہاڑ کی چوٹی، بالوں کی لٹ۔ ۔ من القلب: دل کا سرا جو شاہ رگ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ شَعَفَةُ کلِّ شيءٍ: چوٹی۔ الشُعَاف: دیوانگی، محبت کی فریفتگی۔ الشَعَاف: محبت کا دل کو چرانا۔ المَشْعُوف: محبت میں شیفتہ، محبت کا دیوانہ۔

۲۔ شَعِفَ ۔ شَعَفًا تِ الناقةُ: اونٹنی کو شعف کی شکایت ہونا صفت: شَعْفَاء۔ الشَعَف (طب): اونٹنی کی ایک بیماری جس کے اثر سے اس کی آنکھوں کے بال جھڑ جاتے ہیں۔

۳۔ الشُعْفَة: بارش کا ایک قطرہ، ہلکی بارش جو زمین کی سطح کو تر کرے۔ ضرب المثل ہے: ما تنفع الشُعْفَةُ في الوادي الرُغُب: ہلکی بارش وسیع وادی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی جسے بھرنے کے لئے زبردست سیلاب درکار ہو۔ اس شخص کے بارے میں بولی جاتی ہے جس کی ڈھیر ساری ضروریات ہوں اور آپ اسے بہت ہی تھوڑا سا دیدیں۔ سمندر سے پیاسے کو ملے قطرۂ شبنم۔

شعل: ا۔ شَعَلَ ۔ شَعْلاً النارَ: آگ بھڑکانا۔ شَعَّلَ النارَ: آگ بھڑکانا۔ أشْعَلَ النارَ: آگ بھڑکانا۔ ۔ ہ: کو غضبناک کرنا۔ تَشَعَّلَتِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ اِشْتَعَلَت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ کہتے ہیں: اِشْتَعَلَ الرأسُ شَيْبًا: سر کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی پھیل جانا۔ اِشْتَعَلَ فلانٌ: کسی کا غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ غلامٌ شَعْلٌ: جوشیلا نوجوان۔ الشُعْلَة جمع شُعَل: آگ کا شعلہ، آگ کی بھڑک، جلتی لکڑی جس سے آگ بھڑکائی جائے۔ الشَعِيل: ہانڈی کے نیچے ستاروں کے مانند چمکنے والی چیز، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا، شعلہ زن، مشتعل۔ الشَعِيلَة جمع شُعُل: بھڑکتی ہوئی آگ، جلتی

niarfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہوئی ہی۔الأشْعَلُ من الناس: وہ جس کی آنکھوں میں پیدائشی سرخی ہو۔المَشْعَل جمع مَشَاعِل: ہاتھوں میں پکڑی ہوئی جلتی لکڑی تاکہ روشنی کی جائے، قندیل، لیمپ۔المَشْعَلَة: چولہا۔۔ جمع مَشَاعِل: قندیل، لیمپ۔

۲۔ شَعَلَ ~ شَعْلاً الأمرَ: معاملہ کو غور سے دیکھنا۔ أَشْعَلَ السقيَ: خوب پانی پلانا۔۔ تِ العينُ: آنکھ کا زیادہ آنسوؤں والی ہونا۔

۳۔ شَعِلَ ~ شَعَلاً و اشْعَلَّ الفرسُ: گھوڑے کی دم یا پیشانی پر سفید داغ ہونا، صفت: شَاعِلٌ و شَعِيلٌ و أَشْعَلُ۔ اِشْعَلَّ اِشْعِلالاً و اِشْعَالَّ اشعيلالاً الفرسُ: گھوڑے کا دم یا پیشانی پر سفید داغ والا ہونا۔الشَّعَل (مص): گھوڑے کی دم یا پیشانی یا کبھی گدی پر سفید داغ۔الشُّعْلَة جمع شُعَل: بمعنی شَعَل۔

۴۔ أَشْعَلَ الجَمْعَ: جمعیت کو منتشر کرنا۔۔ الخيلَ في الغارة: سواروں کو چاروں طرف پھیلانا۔۔ تِ القِرْبَةُ: مشک کے پانی کا ادھر ادھر سے بہنا۔۔ تِ الطعنةُ: چھرے کے گھاؤ کا جگہ جگہ سے خون رسنا۔ اِشْعَلَّ اِشْعِلالاً و اِشْعَالَّ اشْعِيلالاً رأسُ الرجُلِ: کے سر کے بالوں کا کھڑا ہونا۔کھڑے بال والا ہونا۔

۵۔المِشْعَل و المِشْعَال جمع مَشَاعِل و مَشَاعِيل: صافی، چھلنی۔

۶۔الشُّعْلُول جمع شَعَالِيل: آگ کا شعلہ، لوگوں کا گروہ۔کہتے ہیں: ذهبوا شَعَالِيلَ: وہ علیحدہ علیحدہ چلے گئے۔

○ شَعَلَ ~ شَعْلاً و شَعَّلَ و أَشْعَلَ ہ: کسی چیز کو جلانا، روشن کرنا، آگ دکھانا، آگ لگانا، شعلہ فشاں کرنا، بھڑکانا، مشتعل کرنا۔ اِشْتَعَلَ: آگ لگنا، جلنا، آگ کا جلنے لگنا، آگ سے شعلے نکلنا، آگ کا بھڑک اٹھنا، جوش میں آنا، دفعۃً جل اٹھنا؛ آگ کا یکا یک لگ جانا، یا شروع ہونا یا پھیلنا۔ اِشْتَعَلَ غضبًا: سخت غصہ یا طیش سے لال پیلا ہونا۔ اِشْتَعَلَ رأسُهُ شَيْبًا: اس کے بال سفید تھے یا ہو گئے۔ شُعْلَة جمع شُعَل: آگ، شعلہ، لپٹ، ٹارچ (torch)۔ مَشْعَل و مَشْعَلَة جمع مَشَاعِل: ٹارچ (torch)۔مِشْعَال: ٹارچ (torch)، مَشَاعِلی جمع مَشَاعِلِيَّة: مشعل بردار، جلاد پھانسی پر لٹکانے والا، hangman, executioner۔ مُشْتَعِل: جلتا ہوا، شعلہ فشاں، ملتہب۔

شعم: شَعَمَ ~ شَعْمًا الرجُلَ: لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔

شعن: ۱۔ أَشْعَنَ عَدُوَّہٗ: دشمن کو پیشانی سے پکڑنا۔ اِشْعَانَّ و اشْعَنَّ شَعَرُہٗ: کے بالوں کا پراگندہ ہونا۔ الشَّعَن جمع أَشْعَان: سوکھنے کے بعد جھڑے ہوئے پتے یا گھاس۔رجُلٌ مُشْعَانُ الرأسِ: پراگندہ بالوں والا۔شَعَرٌ مُشْعُونٌ: پراگندہ بال۔ الشعانين: عيد الشعانين: اتوار کی عید (عبرانی)۔

۲۔شَعْنَبَ الكبشُ: مینڈھے کا کان کی طرف مڑے ہوئے سینگوں والا ہونا۔صفت: مُشَعْنَب و مُشَعْنِب۔

شعا: ۱۔ شَعَا ~ شَعْوًا الشَعَرُ: بالوں کا کھڑا ہونا۔ شَعِيَ يَشْعَى شَعًا تِ الغارةُ: لوٹ اور غارت کا پھیل جانا۔صفت: شَعْوَاء۔ اشْعَى القومُ الغارةَ: سخت لوٹ ڈالنا۔الشَّاعِي (فا) م شَاعِيَة جمع شَوَاعٍ: دور، متفرق، مشترک حصہ۔کہتے ہیں: جاءت الخيلُ شَوَاعِيَ و شَوَائِعَ: گھوڑے متفرق آئے۔غارةٌ شَعْوَاء: دور تک پھیلی ہوئی غارت۔شجرةٌ شَعْوَاء: پھیلی ہوئی شاخوں والا درخت۔الشُّعَى واحد شَعْوَة: پراگندہ بالوں کے گچھے۔

۲۔ أَشْعَى بہ: کا اہتمام کرنا۔

۳۔شَعْوَذَ شَعْوَذَةً: مداری کا تماشا کرنا، شعبدہ بازی کرنا۔صفت: مُشَعْوِذ و مُشَعْوَذ۔ الشَّعْوَذَة: ہاتھ کی صفائی، شعبدہ بازی۔

○ غارةٌ او حملةٌ اوحربٌ شَعْوَاء: وسیع پیمانہ کی دور تک تباہی مچانے والی جنگ یا حملہ۔

○ شَعْوَذَ: شعبدہ بازی کرنا، مداری کا تماشا کرنا، شعبدے دکھانا، شیشہ گری کرنا، جھوٹ سچ ایک کر دکھانا، کرتب دکھانا، ہاتھ کی صفائی سے کام لینا، جادوگری کرنا۔ شَعْوَذَة: شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، کرتب، جادوگری، جادو، فسوں گری۔ مُشَعْوِذ: مداری، شعبدے باز، جادوگر، فسوں گر، ساحر، ٹھگ، دھوکے باز، فریبی۔

شغ: شَغْشَغَ الشيءَ: کو اندر کرنا یا باہر کرنا۔کہتے ہیں: شَغْشَغَ الطاعنُ: نیزہ باز کا زخم خوردہ کے جسم میں نیزہ کو پھیرنا، ہلانا۔۔ المُلْجَمَ: سوار کا جانور کے منہ میں اسے سزا دینے کے لئے لگام اندر باہر کرنا۔۔ في الأمر: کام میں جلدی کرنا۔۔ في الشرب: پینا کم کرنا۔۔ في الاناء ماءً أو غيرَہٗ: برتن میں پانی وغیرہ بغیر بھرنے کے ڈالنا۔۔ البئرَ: کنویں کو گدلا کرنا۔کہتے ہیں: شَغْشَغَ شربي: اس نے میرا شروب گدلا کر دیا۔

شغب: ۱۔شَغَبَ ~ شَغْبًا و شَغَبًا القومَ و بهم و عليهم: لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کرنا۔صفت: شَغِبٌ و شِغَبٌ و شَغَّابٌ و مِشْغَبٌ و مُشَاغِب و ذو مَشَاغِب۔۔ شَغْبًا عن الطريق: راستے سے ہٹنا۔ شَغِبَ ~شَغْبًا و شَغَبًا القومَ و بهم و عليهم: لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کرنا۔صفت: شَغِبٌ و شِغَبٌ و شَغَّابٌ و مِشْغَبٌ و مُشَاغِبٌ و ذو مَشَاغِب۔ شَغَّبَ القومَ و بهم و عليهم: لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کرنا۔شَاغَبَہٗ: سے جھگڑا کرنا اور بہت غنڈہ گردی کرنا۔تَشَاغَبَ الرجُلُ: نافرمانی کرنا۔کہتے ہیں: طلبت منه كذا فتشاغب: میں نے اس سے فلاں چیز طلب کی تو اس نے میری بات نہ مانی اور وہ چیز مجھے نہیں دی۔الشَّغْب (مص) و الشَّغَب (مص): بہت شور و غوغا۔الشَّغُوب: شر انگیز، جھگڑالو۔

۲۔تَشَغْبَرَتِ الريحُ: ہوا کا پیچ کھا کر یا بل کھاتے چلنا۔

○ شَغَبَ و شَغِبَ ~ شَغْبًا و شَغَبًا: امن و امان میں خلل ڈالنا، امن و امان کو درہم برہم کرنا، پریشانی یا مصیبت کھڑی کرنا، بلوہ اور فساد بھڑکانا، ہنگامہ کھڑا کرنا، اودھم مچانا، دنگا فساد کرنا۔۔ ھم/علی/ب: لوگوں کے مابین اختلاف، نزاع، ان بن، نااتفاقی کا باعث بننا۔شَاغَبَ: پریشانی یا مصیبت کھڑا کرنا، امن و امان درہم برہم کرنا۔۔ علی: کے خلاف بغاوت کرنا۔شَغْب و شَغَب: عام بے چینی، گڑبڑ، پریشانی، مصیبت، تکلیف، خلل، ہلچل، نااتفاقی، نزاع، ان بن، بلوہ، فساد، اودھم، دھا چوکڑی، ہنگامہ، ہلچل، افراتفری، اضطراب، شورش، شور و غوغا، جھگڑا فساد، کہرام، دنگا، لڑائی، ہلڑ، شور، تو تو میں میں، مجادلہ، مناقشہ، مخاصمت، مباحثہ، قیل و قال۔شَغَّاب: تخریب کار، تحریک میں حصہ لینے والا، فسادی، فتنہ پرور۔شغوب: سخت شور و غوغا اور بے چینی پیدا کرنے والا، ہنگامہ خیز، شورش پسند، ہنگامہ پرور، پرآشوب۔ مُشَاغِب: پریشانیاں، مصائب، فسادات، گڑبڑیں۔ مُشَاغَبَة جمع مُشَاغَبات: بے ضابطگی، نزاع، نااتفاقی، ان بن، لڑائی جھگڑا، گڑبڑ، فساد، پریشانی، مصیبت، بلوہ، ہنگامہ، شور و غوغا۔۔ علی: کے خلاف بغاوت۔ مُشَاغِب: فسادی، فتنہ پرور، بلوائی، تخریب کار، تحریک میں حصہ لینے والا۔جمع مُشَاغِبُون۔

شغر: ۱۔ شَغَرَ ~ شُغُورًا الرجُلُ: دور ہونا۔۔ الناسُ: متفرق ہونا، منتشر ہونا۔۔ شَغْوًا و شِغَارًا ہٗ عن بلدہ: کو جلا وطن کرنا، شہر بدر کرنا۔ اشْغَرَ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المنهلُ: چشمہ کا راستہ سے ایک طرف ہونا، دور ہونا۔ ــ تِ الرُّفقةُ: ساتھیوں کا راستہ سے جدا ہونا۔ ــ الحسابُ علیه: حساب کا انتشار اور پھیلاؤ کے باعث قابو میں نہ آنا۔ تَشَغَّرَ البعیرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا۔ ــ في امرٍ قبیحٍ: کسی بری بات پر ثابت قدم رہنا۔ اِشْتَغَرَ الامرُ: معاملہ کا بڑا اور وسیع ہونا، خلط ملط ہونا۔ ــ الحسابُ علیه: حساب کا خلط ملط اور پیچیدہ ہونے کی وجہ سے کسی شخص کے قابو میں نہ آنا۔ ــ الحربُ بین القومین: دونوں قوموں کے درمیان لڑائی کا وسیع پیمانہ پر چھڑنا اور سخت و سنگین ہونا۔ ــ في الفلاۃِ: بیابان میں دور تک جانا۔ الشَّغَر و الشِّغَر: کہا جاتا ہے: تَفَرَّقُوا شَغَرَ بَغَرَ و شِغَرَ بِغَرَ: وہ ہر طرف بکھر گئے۔ الشِّغار (مص): دھتکار، جلاوطنی۔ بئرٌ شِغارٌ و آبادٌ شِغارٌ: بہت پانی والا بڑا کنواں یا کنویں۔ المِشْغَر: چھوٹی برچھی جس سے وحشی جانوروں کو بھگایا جاتا ہے۔

۲۔ شَغَرَ ـُ شُغُوراً تِ الارضُ: ملک کا بغیر محافظ کے ہونا۔ صفت: شاغِرۃ۔ ــ السعرُ: بھاؤ کا گھٹنا۔ اناءٌ شَغارٌ: خالی برتن۔

۳۔ شَغَرَ ـَ شَغْراً الکلبُ: کتے کا ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا۔ ــ ت الناقةُ: اونٹنی کا ایک ٹانگ اٹھا کر بچہ کو مارنا۔ شاغَرَ مُشاغَرَۃً و شِغاراً الرجلان علیه: دو آدمیوں کا دوڑ کر کسی پر حملہ کرنا۔ اِشْتَغَرَ علیه: پر دست درازی کر کے فخر کرنا۔

۴۔ شاغَرَ مُشاغَرَۃً و شِغاراً ہٗ: اپنی بہن یا بیٹی کو کسی کے نکاح میں اس شرط پر دینا کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کو مہر کے بغیر اس کے نکاح میں دے گا۔

۵۔ الشَّغّارۃ: چقماق۔ الشّاغور: آبشار (آرامی لفظ)۔ الشِّغِّیر: بدخلق۔

۶۔ الشَّغْزَبِیَّۃ: پہلوان کا اپنے مقابل کی ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر گرانا، پچھاڑنا، لنگڑی مارنا۔

○ شَغَرَ ـُ شُغُوراً: (ملک کا) قلعہ بندی سے محروم ہونا، غیر محفوظ ہونا۔ (جگہ، آسامی، منصب وغیرہ کا) خالی ہونا۔ شُغُور: آسامی، خالی جگہ (vacancy)۔ شاغِر: خالی اور غیر محفوظ (ملک وغیرہ) خالی (آسامی، جگہ، منصب)۔ شَواغِر: خالی جگہیں vacancies

شغز: ۱۔ شَغَزَ ـَ شَغْزاً علیهم: سے زیادتی کرنا، پر دست درازی کرنا۔ ــ بینهم: کے درمیان فساد ڈالنا، کو بھڑکانا۔ الشَّغِیزۃ: سُوا۔

۲۔ شَغْزَبَ ہٗ: کو لنگڑی مار کر گرانا، پچھاڑنا۔ تَشَغْزَبَ ت الریحُ: ہوا کا پیچ کھا کر چلنا۔ بل کھاتے ہوئے چلنا۔

شغف: ۱۔ شَغَفَ ـَ شَغْفاً ہٗ: دل کی جھلی کو صدمہ پہنچنا۔ ــ فؤادَہٗ: دل پر چھا جانا، غالب آنا۔ شَغِفَ ـَ شَغَفاً حُبُّہٗ: محبت کا دل کی جھلی تک پہنچنا۔ شُغِفَ به: کسی کی محبت میں فریفتہ ہونا۔ تَشَغَّفَ الناسَ: لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں پراگندہ کرنا۔ الشَّغْف (مص): دل کا غلاف، دل کا پردہ۔ الشَّغَف (مص): انتہائی محبت۔ شَغَفُ القلبِ: دل کا غلاف۔ الشَّغاف جمع شُغُف و أَشْغِفَۃ: دل کا غلاف۔ سویداء قلب۔ ــ و الشُّغاف (طب): دائیں طرف کی پسلیوں کے نیچے کا درد۔ المَشْغُوف (مفع) (ب): پاگل پن کی حد تک (کا) عاشق۔ (پر) لٹو، فریفتہ، گرویدہ، (کا) پر جوش دلدادہ، (کی) محبت میں پاگل، سودائی۔

۲۔ شَغَفَ ـَ شَغْفاً الیبیسُ: خشک گھاس کا سبز گھاس والا ہونا۔

○ شَغَفَ ـَ شَغْفاً ہٗ: کو لٹو کرنا، فریفتہ کرنا، گرویدہ بنانا، کو کے سرگرم شوق یا عشق سے مملو کرنا۔ شُغِفَ به (حبّاً): کسی شخص یا چیز سے پر جوش محبت کرنا، کسی شخص سے پاگل پن کی حد تک محبت کرنا، کا گرویدہ ہونا، پر فریفتہ ہونا، کسی چیز کا از حد شوقین ہونا۔ اِنشغف به: سے بہت محبت کرنا، کا عاشق ہونا، گرویدہ ہونا، پر فریفتہ ہونا۔ شغف: جذباتی محبت، جذبہ، عشق، شہوانی خواہش، فریفتگی، شیفتگی، عشق، سرگرم جوش، شوق، جوش، دھن، من بسا خیال، محبت۔ شَغُوفٌ ب: جس پر کسی کے لئے پر ولولہ اور پر شوق محبت، شفقت، چاہ، لگن دھن مسلط ہو، کا پاگل پن کی حد تک محبت کرنے والا، پر لٹو، کا گرویدہ۔ مشغوف ب: کا پاگل پن کی حد تک عاشق، کا جذباتی طور پر شوقین، پر لٹو، فریفتہ، کا گرویدہ۔

شغل: ۱۔ شَغَلَ ـَ شَغْلاً و شُغْلاً و أَشْغَلَ ہٗ بکذا: کو میں مشغول کرنا، مصروف کرنا۔ ــ عنه: سے غافل کرنا۔ شُغِلَ عنه بکذا: سے غافل رہنا۔ کہتے ہیں: ما أشغلَہٗ (وہ کتنا مصروف یا مشغول ہے!) لیکن یہ خلاف قاعدہ ہے کیونکہ مجہول صیغہ ہے اس سے تعجب کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ شَغَّلَ ہٗ: کو بہت مشغول رکھنا۔ تَشَغَّلَ بکذا: میں مشغول ہونا۔ تَشاغَلَ بکذا: میں مشغول ہونا ــ عنه: سے غافل ہونا۔ اِشْتَغَلَ بکذا: میں مشغول ہونا۔ ــ قلبُہٗ: دل کا فکر مند ہونا، پریشان ہونا۔ الشُّغْل مشغولیت، مصروفیت، کام۔ ــ والشُّغُل و الشَّغَل جمع أَشْغال و شُغُول: مشغولیت، مصروفیت، کام۔ الشاغل (فا) [illegible]

کے لئے کہتے ہیں: انا فی شغلٍ شاغِلٍ: میں بہت مشغول ہوں۔ الشَّغْلَۃ جمع شَغْل: اسم مرۃ۔ الشَّغِل: مشغول، کام والا۔ الشَّغّال: بہت کام کرنے والا۔ الأُشْغُولَۃ و المَشْغَلَۃ: کام (جو تمہیں مصروف رکھے)۔ المَشْغَل جمع مَشاغِل: وہ جگہ جہاں دستی کام سرانجام دیے جاتے ہیں یا جنہیں چھوٹی صنعتیں کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات کارخانہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ المَشْغُول (مفع): بھرا ہوا۔ کہتے ہیں: مکانٌ مشغولٌ: وہ جگہ جو خالی نہ ہو، بھری ہوئی جگہ۔ مالٌ مَشْغُولٌ: تجارت میں لگایا ہوا مال۔ دارٌ مَشْغُولَۃٌ: آباد گھر۔ جاریۃٌ مشغولۃٌ: شوہر والی لڑکی۔

۲۔ اِشْتَغَلَ فیه السمُّ: میں زہر کا اثر کر جانا، سرایت کر جانا۔ ــ الدواء فیه: میں دواء کا فائدہ مند ہونا، پر دواء کا خوشگوار اثر کرنا۔

۳۔ الشَّغْلَۃ جمع شَغْل: کھلیان، غلہ کا ڈھیر۔

○ شَغَلَ ہٗ ب: کو کے ساتھ مشغول رکھنا، مصروف رکھنا۔ ــ ہٗ: کو پریشان کرنا، مشغول رکھنا، مصیبت میں ڈالنا۔ ــ ہٗ عن: کسی کی سے توجہ ہٹانا، کو سے برگشتہ کرنا، بیگانہ کرنا۔ ــ ہ: (منصب، عہدہ جگہ وغیرہ) پر فائز ہونا، کو پر کرنا، پر رہنا، لگا رہنا، پر فائز رہنا۔ ــ ہ: (توجہ) منہمک کرنا، مشغول رکھنا۔ ــ ہ: دشمن کی فوج کو مشغول رکھنا۔ شُغِلَ ب: میں مصروف ہونا، مشغول ہونا، زمین کا (عمارات وغیرہ) کے نیچے آیا ہوا ہونا۔ شُغِلَ به عن: سے توجہ کا ہٹا ہوا ہونا۔ شَغَلَ نفسه ب: میں اپنے آپ کو میں مصروف رکھنا، مشغول کرنا، پر کام کرنا، کی طرف توجہ دینا۔ شغل البال: پریشان کرنا، تشویش میں ڈالنا، بے چین کرنا، بے قرار کرنا، خلل ڈالنا، درہم برہم کرنا۔ شغل الوقت ل: کے لئے وقت مخصوص کرنا، نذر کرنا، وقف کرنا۔ شَغَّلَ ہ: کو مشغول کرنا، مصروف کرنا۔ ــ ہ: کو منہمک کرنا، مشغول کرنا۔ ــ ہ: کو ملازم رکھنا، کو ملازمت دینا، کو کام پر لگانا۔ ــ ہ: (مشین) چلانا۔ ــ ہ: کوئی چیز بنانا۔ ــ ہ: (مال) لگانا، سرمایہ کاری کرنا۔ شاغَلَ ہ: کو مشغول رکھنا، کا خیال بٹانا، کی توجہ ہٹانا۔ أَشْغَلَ ہ: کو مشغول رکھنا، مصروف رکھنا، کو کام پر لگانا، کو ملازم رکھنا۔ ــ ہ: (عہدہ، منصب) پر فائز ہونا، پر فائز رہنا۔ ــ ہ: کو پر کرنا، لینا۔ ــ ہ: وقت لینا۔ ــ ہ: دشمن کی فوج کو مشغول رکھنا، ایک جگہ پر رکھنا۔ ــ ہ عن: کو سے ہٹانا، بیگانہ کرنا، ورغلانا، پھسلا کر لیجانا۔ اُشْغَلَ البالَ: پریشان کرنا، تشویش میں ڈالنا، بے قرار کرنا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بے چین کرنا، خلل ڈالنا، درہم برہم کرنا۔ تشاغل ب: اپنے آپ کو میں مشغول رکھنا، مصروف رکھنا یا میں مصروف رہنا، مشغول ہونا؛ پر توجہ کرنا، اپنے آپ کو کیلئے وقف کرنا۔ تشاغل: مصروف ہونے کا بہانہ کرنا، جھوٹ موٹ مصروف ہونا۔ اِنشغل ب: سے دلچسپی لینا، میں مصروف ہونا۔ اشتغل علی: کے ساتھ یا ماتحت پڑھنا۔ اشتغل (مشین وغیرہ کا) کام کرنا، چلنا۔ اشتغل قلبه: دل بے چین ہونا، پریشان ہونا، تشویش مند ہونا۔ اِشْتَغَل به عن: کسی چیز کے باعث سے توجہ کا ہٹا ہونا۔ شُغْل: پر فائز ہونا، کو پُر کرنا، کو لینا، سے روکنا، باز رکھنا، منع کرنا، سے توجہ ہٹانا، جمع اشغال: قبضہ، عمل، مستعدی، سرگرمی، کام، نوکری، ملازمت، شغل، سے رابطہ، تعلق، معاملہ حق۔ شُغْل شَاغِل: پہلا یا اولین کام، وہ کام جو باقی باتوں سے توجہ ہٹانے والا ہو۔ اشغالٌ شاقّة: مشقت (کے کام)۔ اشغالٌ عامةٌ یا اشغالٌ عمومیّة: تعمیرات عامہ۔ Public works۔ شغلٌ یَدَوِی: ہاتھ کا کام، محنت، مشقت، handwork, manual labour۔ شغلُ ید: ہاتھ کا بنا ہوا (handmade)۔ فی شغلٍ من: میں غرق، مستغرق، کے متعلق پریشان۔ فی شغلٍ ب: میں مصروف، مشغول۔ کان فی شغل عن: میں بہت زیادہ مصروف، مشغول یا مستغرق ہونا۔ اِلْزَمْ شُغْلَك: خواہ مخواہ دخل در معقولات نہ کرو یا اپنے کام سے کام رکھو۔ mind your own business۔ شَغَّال: بہت مصروف، محنتی، فعال، سرگرم، مستعد، چست، جمع شغّالون: کام کرنے والا، کارکن۔ شغیل جمع شغیلة: (شامی استعمال): کام کرنے والا، کارکن، مزدور (نچلے درجے کا) ملازم۔ مَشْغَل جمع مَشَاغِل: ورک شاپ محتاج خانہ workhouse۔ مَشْغَلَة جمع مشاغل: پیشہ، مشغلہ، عمل، میدان عمل، کام، کوشش، انحراف، انتشار خیال، گہری سوچ فکر، خلل، گڑبڑ۔ تشغیل: ملازمت، کام، پیشہ، ملازمت مہیا کرنا، کام دینا، کام پر رکھنا، چالو کرنا، چلانا (مشین وغیرہ)، پیدا کرنا، بنانا، روپیہ لگانا، سرمایہ کاری کرنا۔ اِنشغال: مصروف یا مشغول ہونا یا مصروف و مشغول ہونے کی حالت یا کیفیت، عمل، سرگرمی، مستعدی، بہت زیادہ کام (over work)، اندیشہ، پریشانی، تشویش۔ اشتغال ب/فی: میں مصروفیت یا مشغولیت یا مصروفیت یا مشغولیت کی حالت یا کیفیت کے ساتھ یا میں کام کرنا۔ وجد شاغلاً عنه فی: اس نے اس بات سے عدم توجہی فلاں بات میں پائی۔ هو فی الف شاغل عن: اسے اس کے بجائے اور ہزاروں باتوں کے متعلق سوچنا پڑتا ہے۔ کان أکبرَ شاغل له: یہ اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ مشغول ب: میں مصروف، مشغول۔ عن: سے توجہ ہٹائے ہوئے، سے خیال بٹا ہوا۔ مشغول (ٹیلیفون لائن وغیرہ) مصروف۔ مشغول البال: پریشان، تشویش مند۔ المشغولات الذهبیة و الفضیّة: سونے اور چاندی کا کام۔ مشغولیة: پریشانی، اندیشہ۔ مُشْتَغِل: ملازم، کارکن۔ مُشْتَغِل ب/فی: میں مصروف، مصروف، ـــ: چالو حالت میں، چلتی ہوئی (مشین وغیرہ)

شغم: الشَغِم: حریص، لالچی۔ الشُغْمُوم و الشِغْمِیم: لمبا، خوبصورت۔

شغن: ۱۔ الشُغْنَة جمع شُغَن: تروتازہ شاخ۔
۲۔ الشُغْنُب و الشُغْنُوب: نازک و تر شاخ۔

شغا: شَغَا ـ شُغُوًّا و شَغِی تَشْغَی شَغًا السنُّ: دانت کا دوسرے دانتوں سے زیادہ لمبا ہونا۔ صفت: شَاغِیَةٌ جمع شَوَاغٍ۔ أشْغَی م شَغْواء و شَغْیَاء جمع شُغْوٌ: ایک دانت دوسرے دانتوں سے لمبا رکھنے والا۔ أَشْغَی إشغاءً القومُ به: کے معاملہ میں لوگوں کی مخالفت کرنا ـــ فلانٌ رأیَهُ: کی رائے کو پراگندہ کرنا۔ الشَغْوَاء (ح): عقاب (کیونکہ اس کی اوپر کی چونچ نچلی چونچ سے زیادہ لمبی ہوتی ہے)۔

شف: ۱۔ شَفَّ ـ شُفُوفًا و شفیفًا و شَفَفًا الشیءُ: چیز اس قدر پتلی اور شفاف ہونا کہ دوسری طرف کی چیز دکھائی دے۔ صفت: شَفِیف و شَفَّاف۔ ـــ شُفُوفًا الجسمُ: جسم کا لاغری سے پتلا ہونا۔ ـــ شَفًّا و شُفُوفًا هُ المرضُ او الهمُّ: بیماری یا غم کا کسی کو دُبلا کرنا، کمزور کرنا۔ شَفَّفَ هُ المرضُ او الهمُّ: بیماری یا غم کا کسی کو دبلا کرنا، کمزور کرنا۔ اِسْتَشَفَّ هُ: کے دوسری طرف کی چیز دیکھنا ـــ له السترُ: کو پردے کے پیچھے کی چیزیں نظر آ جانا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کا عیب دیکھنے کے لئے اس کو روشنی میں پھیلانا ـــ الشیءَ: کو غور سے دیکھنا ـــ الکتابَ: کتاب میں لکھی ہوئی باتوں پر غور و خوض کرنا۔ الشَفّ و الشِفّ جمع شُفُوف: کپڑا، باریک پردہ۔ کہتے ہیں: ثوبٌ شَفٌّ و شِفٌّ: باریک کپڑا۔ الشَفَف: ہلکا پن، تنگ حالی۔ ثوبٌ شفیفٌ: باریک کپڑا۔

۲۔ شَفَّ ـ شَفًّا الشیءُ: زیادہ ہونا، کم ہونا (ضد)۔ کہتے ہیں: شفَّفتَ علیه: تو اس پر برتر ہو گیا۔ اَشَفَّ الدرهمَ: درہم کو زیادہ کرنا، کم کرنا (ضد)۔ ـــ هُ علی فلان: کو فلاں پر فوقیت دینا۔ ـــ علی فلان: پر برتری اور فوقیت لیجانا۔ اِسْتَشَفَّ فی تجارته: تجارت میں فائدہ حاصل کرنا، نفع اٹھانا، کمانا۔ الشَفّ و الشِفّ جمع شُفُوف: زیادتی نقصان (ضد) نفع، منافع۔

۳۔ شَفَّ ـ شَفًّا الشیءُ: کم ہونا (ضد) کہتے ہیں: هذا درهمٌ یشفّ قلیلاً: یہ درہم تھوڑا سا کم ہے۔ ـــ شُفُوفًا و شَفِیفًا و شَفَفًا عنه الثوبُ کپڑے کا سے چھوٹا ہونا۔ أشَفَّ الدرهمَ: درہم کو زیادہ کرنا یا کم کرنا (ضد)۔ الشَفُّ جمع شُفُوفٌ کمی، زیادتی۔ الشِف: آسان بات یا چیز۔ ـــ جمع شُفُوف: کمی، زیادتی (ضد)۔ الشَفَف: تھوڑا۔ الأشَفّ: اسم تفضیل۔ کہتے ہیں: فلانٌ أشفّ من فلان: فلاں فلاں سے تھوڑا سا بڑا ہے۔

۴۔ شَفَّ ـ شَفِیفًا هُ فلان: سردی کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑھوں میں درد ہونا۔ الشَفَّان: بارش والی ٹھنڈی ہوا۔ الشَفِیف جمع شِفَاف (ضد): ٹھنڈی ہوا، سردی کی شدت، سورج کی گرمی کی تیزی۔

۵۔ شَفَّ ـ شَفًّا الشیءُ: چیز کا حرکت کرنا ـــ له الامرُ: قائم رہنا، دائم رہنا، ہمیشہ رہنا۔

۶۔ شَفَّ ـ شَفًّا و شُفُوفًا الماءَ: سب پانی پی جانا۔ تَشَافَّ و اشْتَفَّ ما فی الاناء: برتن کی سب چیز پی جانا۔ کہا جاتا ہے: اِسْتَفَّ البعیرُ الحزامَ: اونٹ نے سارے تنگ کو گھیر لیا۔ ضرب المثل ہے: لیس الریُّ عن التشاف: جس قدر پینے والا پیتا ہے اس سے پیاس نہیں بجھتی۔ اسی طرح امور کی پوری تحقیق پر بھی تحقق کی سیری نہیں ہوتی۔ اِسْتَشَفَّ ما فی الاناء: برتن کی ہر چیز پی جانا ـــ إلیه: کی پوری پوری رغبت کرنا۔ الشُفَافَة: برتن کا باقی ماندہ پانی۔ شُفَافَة النهار: دن کا بقیہ حصہ۔

۷۔ أَشَفَّ الفمُ: منہ کا بدبودار ہونا۔ الشَفّ و الشِفّ جمع شُفُوف: بدبودار پھنسی۔ المَشْفُوف: بدبودار پھنسیوں والا جسم۔

۸۔ شَفْشَفَ به: سے مل جانا، مختلط ہونا ـــ الرجلُ: کانپنا ـــ علیه: پر ترس کرنا، سے ہمدردی کرنا، کے بارے میں اندیشہ کرنا، پریشان ہونا ـــ الدواءَ علی الجرح: دوا زخم پر چھڑکنا ـــ الهمُّ فلاناً: غم کا کسی کو لاغر کرنا ـــ الصقیعُ النبات: پودے کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پالے کا مارنا۔ خشک کرنا اور جلا ڈالنا۔۔۔ الحرُّ او البردُ الشيءَ: گرمی یا سردی کا چیز کو خشک کر دینا۔ تَشَفْشَفَ النباتُ: پودے کا سوکھنے لگنا۔ الشَفْشاف: اولوں والی بارش، (عام لوگ اسے الفنفاف کہتے ہیں) سرد ہوا۔ ثوبٌ شَفْشَافٌ: جھنا کپڑا، چھدری بناوٹ کا کپڑا۔

۹۔ شَفْشَفَ الرجلُ: آدمی کا بد خلق ہونا۔ صفت: مُشَفْشِف و مُشَفْشَف۔

○ شَفَّ - شُفُوفًا و شَفِيفًا و شَفَفًا: باریک ہونا، نازک ہونا، شفاف ہونا، صاف شفاف ہونا۔۔۔ عن: کو ٹمٹمانے دینا، کا انکشاف کرنا، ظاہر کرنا، کو منظر عام پر لانا، کا راز افشا کرنا۔ اِشْتَفَّ ه: کو پی جانا، پی لینا، خالی کر دینا، کو بے تحاشا کھا جانا۔ اِسْتَشَفَّ ه: کو اس کی اچھی بری قسم کا پتہ چلانے کے لئے دیکھنا، کی جھلک دیکھنا، کی امید ہونا، کو خوب سمجھنے کی کوشش کرنا، کی تہہ کو پہنچنے کی کوشش کرنا، کے آر پار ہونے کی کوشش کرنا، کو دیکھنا، سمجھنا۔۔۔ من: سے ٹمٹمانا۔ اِسْتَشَفَّ: اپنے آپ کو واضح کرنا، محسوس اور واضح ہونا، قابل ادراک ہونا، نمایاں ہونا۔ شَفّ و شِفّ جمع شُفُوف: شفاف کپڑا، جالی۔ شَفَفٌ: شفافیت۔ شُفُوف: شفافیت۔ شُفَافَة: گلاس میں بچی ہوئی چیز۔ شَفَّاف: باریک، نازک، شفاف۔ شَفَّافية: شفافیت۔

شفت: ۱۔ شَفْتَرَ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ اِشْفَتَرَّ القَوْمُ: لوگوں کا متفرق ہونا، منتشر ہونا۔۔۔ العودُ: لکڑی کا ٹوٹنا۔۔۔ السراجُ: چراغ کا چوڑی بتی والا ہونا۔

۲۔ شَفْتَرَ: غصہ اور رنجش سے ہونٹوں کو موٹا کر کے باہر کی طرف نکالنا، ناک بھوں چڑھانا، روٹھنا۔ صفت: مُشَفْتِر (عام زبان میں)۔ الشَفْتَرة: ہونٹوں کا موٹا اور باہر کو نکلے ہوئے ہونا۔

شفر: ۱۔ شَفِرَ - شَفَارَةً: گھٹنا کم ہونا۔ شَفَرَ المالُ: مال کا کم ہونا اور جاتا رہنا۔۔۔ الشيءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ عيشٌ مُشَفَّرٌ: تنگ زندگی۔

۲۔ شَفَّرَت الشمسُ: سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ ۔ علی الامر: کام کی طرف متوجہ ہونا۔

۳۔ الشَفْر و الشُفْر جمع أشْفار (ع ا): پلک کی جڑ، ہر چیز کا کنارہ۔ ۔ من الوادی: وادی کا اوپری کنارہ۔ کہتے ہیں: ما في الدار شَفْرٌ و شُفْرٌ: یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں۔ الشَفْرَةُ جمع شَفْر و شِفَار و شَفَرات: بڑی اور چوڑی چھری، تلوار کی دھار، نیزے کے پھل کا پہلو، موچی کی راپی۔ کہتے ہیں: ما في الدار شَفْرَةٌ: یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں۔ الشفير: پلک کی جڑ، ہر چیز کا کنارہ۔ ۔ من الوادی: وادی کا اوپری کنارہ۔ المِشْفَر جمع مَشَافِر: شدت، روک، زمین یا ریت کا ایک قطعہ۔ (ع ا): (اونٹ کا) ہونٹ۔

○ شَفْر جمع أشْفار: پلکیں اگنے کی جگہ، پپوٹے کا (بیرونی) کنارا، کنارا (پیالے، پہیے وغیرہ کا) کنارا (rim) حاشیہ، جھالر۔ شُفْر جمع أشْفار: وہ حاشیہ جہاں سے پلکیں اگتی ہیں، پپوٹے کا (بیرونی) کنارا، کنارا، (پیالے پہیے وغیرہ) کا کنارا (rim) جھالر۔ شَفْرَة جمع شَفَرات و شِفار: بڑا چاقو (تلوار چاقو وغیرہ کا) پھل (blade)، ریزر بلیڈ، جمع شِفار: کنارا۔ علی شفرة الهاوية: پاتال کے کنارے پر، بر لب جہنم۔ شفير: وہ حاشیہ جہاں سے پلکیں اگتی ہیں، پپوٹے کا (بیرونی) کنارا، کنارا، (پیالے پہیے وغیرہ کا) کنارا (rim)، جھالر، حاشیہ۔ مِشْفَر جمع مَشَافِر: تھوتھنی، سونڈ۔ شِفْر (فرانسیسی): خفیہ تحریر یا رسم الخط۔ شِفْرِی: خفیہ تحریر یا رسم الخط میں۔ شِفْرَة: خفیہ تحریر یا رسم الخط۔

شفز: شَفَزَ - شَفْزًا ه: کو لات مارنا۔

○ شَفْشَفَ ه: کو خشک کرنا۔

○ شَفَطَ: چوسنا، جذب کرنا، خالی کرنا، پی لینا، چسکی لگانا۔ شَفَّاطة جمع شَفَّاطات: سیفن (siphon) خمدار نلکی۔ شَفَّاطَةُ الغُبار: گرد کش (vacuum cleaner)۔

شفع: ۱۔ شَفَعَ - شَفْعًا الشيءَ: کو جفت کرنا، دوہرا کرنا۔ کہتے ہیں: كان وترا فشفعه بآخر: وہ طاق تھا تو اس نے ایک اور ملا کر اسے جفت کر دیا۔ و ۔۔۔ ت الناقةُ: اونٹنی کا بچہ رکھتے ہوئے حاملہ ہونا۔ ۔۔۔ جارهُ: پڑوسی کو حق شفع دینا۔ شُفِعَ: کہتے ہیں: شُفِعَ لِيَ الأشخاص: یعنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایک چیز کا دو دکھائی دینا، ایسی آنکھ کو شافعہ کہتے ہیں۔ شَفَّعَ الشيءَ: کسی چیز کو جفت بنانا۔ الشَفْع (مص) ج أشْفَاع و شِفاع: جفت عدد۔ کہتے ہیں: أشفع هو أم وَتْرٌ: کیا وہ جفت ہے یا طاق۔ ناقة شافِع (فا): پیٹ میں چھوٹے بچہ والی حاملہ اونٹنی۔ عينٌ شافِعَةٌ: ضعف بصارت کی وجہ سے ایک کو دو دیکھنے والی آنکھ۔ الشُفْعَةُ جمع شُفَع عند الفقهاء: زمین یا مکان کی ہمسائیگی کی وجہ سے (ہمسایہ کا) حق خرید۔ حق شفعہ۔ ۔ من الضحی: چاشت کی دو رکعتیں۔ ناقة شَفُوعٌ: ایک ہی مرتبہ دو دوہنوں میں برتن بھرنے والی اونٹنی۔ الشفيع من العدد: جفت عدد۔۔۔ جمع شُفَعَاء: حق شفعہ والا۔

۲۔ شَفَعَ - شَفَاعَةً لفلان أو فيه إلى زيد: کی زید سے سفارش کرنا۔۔۔ عليه بالعداوة: کے برخلاف مدد دینا۔ کہتے ہیں: فلانٌ يعاديني وله شافعٌ: یعنی فلاں کا ایک مددگار ہے جو اسے میرے خلاف دشمنی میں مدد دیتا ہے۔۔۔ لفلان في المطلب: کسی کے لئے کوشش کرنا۔ شَفَّعَني في فلان: (کسی کا) فلاں کے بارے میں (میری) سفارش مان لینا۔ تَشَفَّعَ لي و إلى بفلان أو في فلان: (کسی کا فلاں کے بارے میں سفارش کرنے کے لئے مجھ سے) کہنا۔ اِسْتَشْفَعَ زيداً إلى عمرو: (کسی کا زید کو عمرو سے) سفارش کرنے کے لئے کہنا۔۔۔ بفلان علی فلان: کسی سے کسی کے خلاف مدد چاہنا۔ الشفيع جمع شُفَعاء: سفارش کرنے والا۔ المُشَفَّع: جس کی سفارش قبول کی جائے۔ المُشَفِّع: سفارش قبول کرنے والا۔

۳۔ الشُفْعَة جمع شُفَع: جنون، پاگل پن، دیوانگی، آنکھ۔ الأَشْفَع: لمبا، دراز۔ المَشْفُوع: دیوانہ مجنون۔ إمرأة مَشْفُوعَة: وہ عورت جس کو نظر بد لگی ہو۔

○ شَفَعَ - شَفْعًا ه: کو دگنا کرنا۔۔۔ ه ب: کے ساتھ کچھ منسلک کرنا، نتھی کرنا، جوڑنا، بڑھانا، شامل کرنا، آخر میں جوڑ دینا یا لگا دینا۔۔۔ ه ب: کو کسی چیز پر حق شفعہ دینا، کو کسی چیز کے سب سے پہلے مسترد کرنے کا حق دینا۔۔۔ شَفَاعَةً: کے ساتھ (الی) کے لئے، کی خاطر، یا کی طرف سے۔ (في/ل): ثالثی کرنا، کے ساتھ کی خاطر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا، سے کسی کی خاطر سفارش کرنا، شفاعت کرنا، بیچ میں پڑنا، سے کے لئے التجاء کرنا۔ تَشَفَّعَ في/ل إلى: کے ساتھ کے لئے، کی خاطر یا کی طرف سے ثالثی کرنا، کے ساتھ، کی خاطر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا، سے کسی کی سفارش کرنا، یا شفاعت کرنا، سے کی خاطر التجاء کرنا۔ شفيع: ثالث، مصالحت کی کوشش کرنے والا، سفارش کنندہ، شفاعت کنندہ، حامی، موید، سرپرست ولی (عیسائیت میں)، حق شفعہ رکھنے والا۔ شَفَاعة: ثالثی، مصالحت کی کوشش، سفارش، شفاعت، بیچ میں پڑنا، حمایت، تائید۔ شافِع: ثالث، بیچ میں پڑنے والا، سفارش کنندہ، شفاعت کنندہ، حامی، موید، حق شفعہ رکھنے والا۔ الشافعي: چار اسلامی مذاہب فقہ میں سے ایک کا بانی، شافعی مذہب کا یا اس سے متعلق یا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اسے منسوب۔جمع شافعیون یا شوافع: شافعی مذہب کا پیروکار۔مشفوع ب: کے ہمراہ، سے یکجا، کا حامل۔

شفق:۱۔ شَفِقَ - شَفَقًا علیه: کی اصلاح و بھلائی کی فکر میں ہونا، پر مہربان ہونا۔ صفت: شَفِقٌ و شَفُوقٌ و شَفِيقٌ۔ ــ من الامر: سے خوف کرنا، کی حرص کرنا۔ ــ علی الشيء: میں بخل کرنا۔ شَفَّقَ هُ: کو رحم دلانا۔ ــــ الشيءَ: کم کرنا۔ أَشْفَقَ علی الصغیر: چھوٹے پر رحم کھانا، مہربان ہونا۔ أَشْفَقَ علیه و منه: سے ڈرنا کا لالچ کرنا۔ الشَّفَقُ جمع أَشْفَاق: خوف، مہربانی۔ الشَّفَقَة: مہربانی، رحم، خوف کے ساتھ مہربانی۔ کہتے ہیں: اخذتني منه شفقةٌ: مجھ کو اس پر رحم آیا۔ ترس آنا۔ ولي علیه سفقةٌ: مجھے اس پر ترس آتا ہے۔

۲۔ أَشْفَقَ الرجُلُ: آدمی کا شفق کا وقت پانا۔ الشَّفَقُ: غروب آفتاب کے بعد آسمان افق پر سرخی۔ ــــ جمع أَشْفَاق: دن۔

۳۔ شَفَّقَ الثوبَ: کپڑا خراب بننا۔ الشَّفَق جمع أَشْفَاق: ردی چیز۔ ثوبٌ شَفَقٌ: کمزور کپڑا۔

۴۔ أَشْفَقَ ت الریحُ: ہوا کا تیز چلنا اور مٹی ساتھ لیجانا۔

۵۔ الشفق جمع أَشْفَاق: کنارہ۔

○ أشفق علی: پر ترس کھانا، پر رحم کرنا، کی غمگساری کرنا، سے ہمدردی کرنا، سے ہمدردی رکھنا۔ ــ أن: پریشان ہونا کہ۔ ــ علی: پر پریشان ہونا۔ ــ ان: افسوس کرنا کہ۔ ــ علی: کے بارے میں افسوس کرنا۔ ــ ان: خوف کرنا کہ۔ ــ علی: کے لئے ڈرنا۔ من: (سے) ــ علی: کے بارے میں پریشان ہونا، (من) کے نتیجہ کے طور پر۔ ــ من: سے بچنا، سے پہلو تہی کرنا، سے کنی کترانا، سے گریز کرنا۔ ــ من: سے خبردار ہونا، آگاہ ہونا، سے چوکنا چوکر، یا ہوشیار ہونا۔ شَفَقَة: رحم، ترس، ہمدردی، مہربانی۔ سفقت عدیم الشفقة: بے رحم۔ شَفُوقٌ و شَفِيقٌ: رحم دل، ترس کھانے والا، اظہار ہمدردی کرنے والا، پیارا، محبت، محبت آمیز، محبت کا، ہمدردی کا متردد، کا خواہاں، دل سے آمادہ، کا بڑا خیال رکھنے والا، مہربان، مشفق، شفیق۔ اِشْفَاق: رحم، ترس، ہمدردی، مہربانی، رحم دلی، محبت، پیار، چاہت، فکر مندی، پریشانی، تشویش، اندیشہ۔

شفن:۱۔ شَفَنَ ـ و شَفِنَ ـ شُفُونًا الرجلَ و إلی الرجلِ: کو ترچھی نگاہ سے دیکھنا۔ صفت: شَافِن و شَفُون۔ الشَّفْن: انتظار، میراث کا منتظر۔ ــــ و الشَّفِن: عقلمند، دانا۔ الشَّفُون جمع شُفُن: بہت غیرت مند۔

۲۔ الشُّفْنَتَرِيُّ و الشُّفْنَتَرَى: متفرق۔

○ شَافِن: خوددار، غیرتمند۔

شفه: ۱۔ شَفَهَ - شَفْهًا فُلانًا: کے ہونٹ پر مارنا۔ شَافَهَ شِفَاهًا و مُشَافَهَةً هُ: سے منہ در منہ بات کرنا۔ ـــ الشيءَ: کے قریب ہونا، کو قریب کرنا، نزدیک لانا۔ الشَّفَة و الشِّفَة من الانسان: ہونٹ، تثنیہ: شَفَتَان جمع شِفَاه و شَفَهَات: نسبت کے لئے: شَفِيّ و شَفَهِيّ و شَفَوِي: تصغیر: شُفَيْهَة: کہتے ہیں: ما كَلَّمَهُ بِبِنتِ شفة: یعني اُس نے اس سے ایک بات بھی نہیں کی۔ الشَّافِهُ: پیاسا۔ الشُّفَاهِيّ و الأَشْفَهُ: بڑے ہونٹوں والا۔ الحروف الشَّفَهِيَّة: لبوں سے نکلنے والے حروف جیسے ب، ف، م۔ مـاءٌ مَشْفُوه: ایسا پانی جس پر بہت پینے والے آتے ہوں۔

۲۔ شَفَهَ - شَفْهًا فلانًا: سے سوال کر کے سب کچھ خرچ کرا دینا۔ ــ الإناءَ: برتن کا سارا پانی پی جانا۔ کہتے ہیں: کادت العیالُ تشفه مالي: قریب ہے کہ میرے عیال میرا مال ختم کر دیں۔ ــ هُ عن الامر: کام سے کسی کی توجہ ہٹانا۔ شَفِهَ زیدٌ: زید کا بہت سے سائلین رکھنا۔ ــــ الشيءُ: چیز کے طلبگاروں کا زیادہ ہونا۔ ــ الطعامُ: کھانے کے بہت سے کھانے والے ہونا۔ صفت: مَشْفُوهٌ۔ الشَّفَة: کہتے ہیں: هو خفیف الشفة: سوال کرنے میں بہت اصرار کرنے والا یا کم سوال کرنے والا۔ له في الناس شفة حسنة: وہ لوگوں میں اچھی شہرت رکھتا ہے۔ ما أحسنَ شَفَةَ الناسِ علیك: لوگ تمہارے کتنے مداح ہیں۔ مـاءٌ مَشْفُوهٌ: پانی جہاں بکثرت آمد ممنوع ہو۔ کہتے ہیں: هو مَشْفُوهُ الموارد: وہ بڑا مہمان نواز اور بہت بخشش والا ہے۔ فلانٌ مَشْفُوهٌ عنا: فلاں ہم سے غافل ہے۔ اس کے پاس لوگوں کی بکثرت آمد ہے۔

۳۔ شَفَةُ الشيء کالدلو: ڈول جیسی چیز کا کنارا۔

○ شَفَهِي: زبانی۔ الشَّفَهِيّ: زبانی امتحان (orals) شَفَهِيًّا: زبانی (orally)۔ شِفَاهًا: زبانی (orally)۔ شِفَاهِيّ: زبانی۔ الشِّفَاهِيّ: زبانی امتحان (orals)۔ شِفَاهِيًّا: زبانی (orally)۔ مُشَافَهَةً: زبانی (orally)۔

شفا: ۱۔ شَفَا ـ شُفُوًّا الهلالُ: چاند نکلنا۔ ــــ الشخصُ: ظاہر ہونا۔

۲۔ شَفَا ـ شَفُوًّا تِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونے لگنا۔ الشَّفَا: چاند کا بقیہ حصہ جو ابھی غروب نہ ہوا ہو۔ جس کا تثنیہ شَفَوان اور جمع أَشْفَاء ہے: ہر چیز کا کنارا اور حد، آدمی کی موت، چاند کی آخری راتوں میں ہونے اور سورج کے غروب کے وقت کہا جاتا ہے: مابقِيَ منه اِلاّ شفًا: وہ تھوڑا سا رہ گیا۔

۳۔ الأَشْفَى: جس کے ہونٹ آپس میں نہ ملتے ہوں۔

شفي: ۱۔ شَفَى - شِفَاءً اللّٰهُ فلانًا من مرضِهِ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیماری سے صحت یاب کرنا۔ ــ فُلانٌ فلانًا: کسی کا کسی کے لئے صحت یابی کا طالب ہونا۔ شُفِيَ المریضُ: بیمار کا صحت یاب ہونا، تندرست ہونا۔ أشْفَی إشْفَاءً فلانًا: کی شفا طلب کرنا۔ ــ العلیلُ: مریض کا صحت پانے سے رکنا، مریض کا صحت نہ پانا۔ أشفی المریضَ: مریض کو دوا بتانا۔ کہتے ہیں: أشْفِني: مجھے ایسی چیز دو جس سے شفا ہو جائے۔ ــ هُ الشيءَ: کو کوئی صحت بخش چیز دینا۔ تَشَفَّى بکذا: سے شفا حاصل کرنا۔ ــ من غَیْظِه: کا غصہ ٹھنڈا ہونا۔ کہتے ہیں: تَشَفَّی من فلان: دشمن کو ایذا دے کر دل ٹھنڈا کرنا۔ اِشْتَفَی بکذا: سے شفایاب ہونا۔ اِسْتَشْفَی اِستِشْفَاءً به: سے شفا چاہنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ يُسْتَشفَى برأيه: فلاں کی رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ ــــ المریضُ من علّته: مریض کا بیماری سے تندرست ہونا۔ الشِفاء (مص) جمع أَشْفِيَة و جمع الجمع أشافٍ: دواء۔ الشافي من الادویة و نحوها: فائدہ مند دواء وغیرہ۔ الجوابُ الشافي: تسلی بخش جواب۔ المُستَشْفَی جمع مُستَشْفَیات: ہسپتال۔

۲۔ شَفَی - شِفَاءً تِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ ــــ و شَفِيَ ـ شَفًی الهلالُ: چاند کا غروب ہونا۔ أشْفَی إشْفَاءً علیه: کے قریب ہونا۔ جیسے: أشفی المریضُ علی الموت: بیمار کا موت کے قریب آ پہنچنا، مرنے لگنا۔ ــ المسافرُ: مسافر کا آخری رات کی چاندنی میں چلنا۔

۳۔ الأَشْفَى جمع أشافٍ: ستالی، برما۔

○ أُشْفَى علی: کے بہت قریب ہونا، کے کرنے ہی کو ہونا، کے برلب ہونا۔ أَشْفَی به علی حافة الیاس: اس نے اسے مایوسی تک پہنچا دیا۔ شَفًا جمع أَشْفَاء: کنارا، کے قریب ہونا، کے برلب ہونا۔ شَفَوِيّ: زبانی۔ شَفَوِيًّا: زبانی (orally)۔ الحروف الشفوية: شفوی حروف۔ دیکھو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الحروف الشفهية۔ مُشْفٍ: جس پر موت طاری ہو، جانکنی کی حالت میں، حالتِ نزع میں، جس پر سکوتِ مرگ طاری ہو یا مردنی چھا رہی ہو، قریب المرگ۔ شُفِيَ: رو بصحت ہونا، صحت یا طاقت بحال ہوجانا۔ شَفَى غُلَّتَهُ (غليلَهُ): اپنی پیاس بجھانا، اپنی خواہش کی تسکین کرنا، انتقام کی خواہش پوری کرنا۔ شَفَى غَيْظَهُ من: پر غصہ اتارنا۔ تَشَفَّى و اِشْتَفَى ب: سے صحت یاب ہونا، سے صحت بحال ہونا۔ ـــ من: سے انتقام لینا، پر غصہ اتارنا، سے انتقام کی خواہش پوری کرنا۔ شِفَاء: صحت یابی، خواہش کی تکمیل، تسکین جمع أشفية: علاج، معالجہ، دوا۔ قابل للشفاء: قابلِ علاج۔ مَشْفًى جمع مَشَافٍ: ہسپتال۔ تَشَفٍّ: انتقام کی خواہش کی تسکین۔ شافٍ: صحت یاب کرنے والا، شفا بخش، فائدہ بخش، واضح غیر مبہم (جواب)۔ مُسْتَشْفًى جمع مُسْتَشْفَيات: ہسپتال، فیلڈ ہسپتال، دق کے مریضوں کا دار الصحت یا دار الشفاء: سینیٹوریم (sanatorium) مُسْتَشْفَى المجاذيب: دماغی ہسپتال meental hospital۔ پاگل خانہ: insane asylum۔

شقّ: ا۔ شَقَّ ـُ شَقًّا الشيءَ: کو پھاڑنا، متفرق کرنا۔ اسی سے ہے: شقّ عصا القومِ: اس نے قوم کی جمعیت کو منتشر کر دیا۔ شقّ فلان العصا: فلاں جماعت سے الگ ہو گیا۔ شقّ الصبحُ: صبح کا طلوع ہونا۔ ـــ الارضَ بالسِكّة (ز): زمین کو ہل کی پھال سے پھاڑنا۔ ـــ على المريض: بیماری عدم موجودگی بری طرح محسوس کرنا۔ ـــ شُقُوقًا النبتُ: نبات کا زمین سے نکلنا یعنی اُگنا۔ ـــ نابُ البعير: اونٹ کا دانت نکلنا۔ ـــ شَقًّا و مَشَقَّةً البرقُ: بجلی کا آسمان کے درمیان سیدھا پھیلنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا رفتار میں ایک طرف جھکنا۔ شَقَّقَ الحطبَ: لکڑی پھاڑنا، چیرنا۔ ـــ الكلامَ: بات بر ملا کہنا۔ شاقّ شِقَاقًا و مُشَاقَّةً: کی مخالفت کرنا اور سے دشمنی رکھنا۔ تَشَقَّقَ الحطبُ: لکڑی کا پھٹنا، چرنا۔ کہتے ہیں: شقّقتُهُ فتشقّق: میں نے اسے پھاڑا تو وہ پھٹ گیا۔ کہتے ہیں: تَشَقَّقَت عصاهم بالبين: ان کا معاملہ تتر بتر ہو گیا، ان کی جماعت اختلاف کی وجہ سے پراگندہ ہوگئی۔ تَشَاقَّ القومُ: باہم مخالفت کرنا، آپس میں عداوت رکھنا۔ ـــ الرجلان: آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھنا، خوب جھگڑنا۔ تشاقّوا ثيابَهم: ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دینا۔ اِشْتَقَّ الشيءَ: آدھا لینا۔ ـــ الفرسُ في عدوه: گھوڑے کا دوڑنے میں دائیں بائیں جانا۔ ـــ الكلمةَ من الكلمة: ایک کلمہ کو دوسرے سے مشتق کرنا۔ جیسے: اشتقّ ضَرَبَ من الضَرْب: اس نے مصدر ضرب سے فعل میں ضَرَبَ مشتق کیا۔ ـــ في الكلام او الخصومة: کلام یا خصومت میں اپنے نکتہ سے ہٹ جانا۔ ـــ الطريقَ في الفلاة: بیابان میں راستہ طے کرنا۔ اِنْشَقَّ الشيءُ: چیز میں شگاف پڑنا، دراڑ آنا۔ ـــ الفجرُ: صبح کا طلوع ہونا۔ ـــ الامرُ: پراگندہ ہونا۔ کہتے ہیں: اِنْشَقَّت عصاهم: ان کا معاملہ پراگندہ ہو گیا۔ الشَقّ (مص) جمع شُقُوق: دراڑ، پھٹن، شگاف، درز، ترخن، پھٹی ہوئی جگہ، صبح، ہر چیز کا آدھا۔ الشِقّ: انسان کی ایک طرف۔ دو حصوں میں پھٹی ہوئی چیز کا ایک حصہ، کنارا، اس چیز کا نام جسے آپ دیکھیں۔ ہر چیز کا نصف۔ کہتے ہیں: المال بيني و بينك شِقَّ أو شَقَّ شَعرةٍ: مال میرے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہے۔ الشُقّة جمع شُقَق: مسافت۔ الشُقَّةُ الساعيّة (فلك): ایک گھنٹہ کی مسافت جس کا تعین طول کے دو خطوں کے مابین پندرہ درجوں سے کیا جاتا ہے، جو منطقہ کو محدود کرتے ہیں۔ الشِقَّة جمع شِقَق و شِقَاق: کپڑے وغیرہ کا لمبا ٹکڑا، دھجی، پھٹا ہوا نصف حصہ۔ ـــ جمع شُقَق: مسافت۔ الشَقِيق: دو حصوں میں پھٹی ہوئی چیز کا ایک حصہ۔ جمع اَشِقّاء: سگا بھائی، نظیر۔ الشَقِيقَة جمع شَقَائِق (طب): آدھے سر کا درد، بہن، باغات کے درمیان سخت زمین، شدید بارش۔ ـــ من البرق: افق میں پھیل جانے والی بجلی۔ شَقَائِقُ النعمان (ن): گل لالہ۔ الاشقّ من الخيل: دائیں بائیں دوڑنے والا گھوڑا۔ فرس اشقّ المنخرين: کشادہ نتھنوں والا گھوڑا۔

۲۔ شَقَّ ـِ شَقًّا و مَشَقَّةً الامرُ: کام کا دشوار ہونا۔ ـــ على فلان: کو مشقت میں ڈالنا۔ الشَقّ جمع شُقُوق: مشقت۔ الشِقّ: مشقت۔ الشِقّة و الشُقَّة جمع شُقَق: مسافت، وہ رخ جس کا مسافر قصد کرے، دور کا سفر، مشقت، وہ راستہ جس کا طے کرنا راہرو کے لئے دشوار ہو۔ المَشَقَّة و المِشَقَّة جمع مَشَاق و مَشَقّات: صعوبت، تکلیف، سختی، مشکل، محنت مشقت، جانفشانی، مصیبت، پریشانی، زحمت۔

۳۔ تَشَقَّقَ الفرسُ: گھوڑے کا لاغر ہونا۔

۴۔ الشِقّ (ح): بن مانس۔

۵۔ شُقْشُقَ شَقْشَقَةً الطيرُ: پرندہ کا آواز نکالنا۔ عوام کہتے ہیں: شقشقت الغاسلة الثيابَ او الاناء: یعنی دھونے والی نے بالآخر کپڑے اور برتن پانی سے دھوئے تاکہ صابن کا اثر جاتا رہے۔ الشِقْشِقَة جمع شَقَاشِق: اونٹ کے منہ کا جھاگ جو وہ مستی کے وقت نکالتا ہے۔ فصیح شخص کے لئے کہا جاتا ہے: هدرت شِقْشِقَتُهُ و فلانٌ شِقْشِقَةُ قومِهِ: فلاں اپنی قوم میں شریف اور فصیح ہے۔

◌ شَقَّ على: کیلئے بھاری، سخت یا ناقابل برداشت ہونا، کو رنجیدہ کرنا، دکھ پہنچانا، دق کرنا، پریشان کرنا، تکلیف دینا، کو ملنا، سے ملاقات کو جانا۔ شَقَّت جَيْبَها: عورت کا ماتم کرتے ہوئے گریباں پھاڑ دینا۔ شقّ سبيلاً: اپنے لئے راستہ نکالنا۔ شقّ السكونَ: خاموشی توڑنا۔ شقّ شارعًا (طريقًا): سڑک یا گلی تعمیر کرنا، بنانا۔ شقّ طريقه: اپنے راستہ پر چلتے چلے جانا۔ شقّ طريقاً جديدا: نئے راستہ میں داخل ہونا، یا نیا راستہ کھولنا۔ شقّ العصاء: قوم سے الگ ہو جانا۔ شقّ عصا الطاعة: بغاوت کرنا۔ شق عصا القوم: لوگوں میں اختلاف کے بیج بونا۔ ماشق غُبارَهم: وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ لا يُشَقّ غبارُهُ: اس پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، وہ بے نظیر ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ انشقت عصاهم: وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ انشقت مرارتُهُ: وہ غصہ سے پھٹ پڑا۔ شقّ الذرَّة: جوہری انشقاق (atomic fission)۔ شِقّ المُعَارَضَة: حزب اختلاف (opposition party)۔ لا۔ ـــ إلا بِشِقّ الانفس (بِشِقّ النفس): صرف سخت کوشش سے، انتہائی مشکل سے، بمشکل۔ شِقّة: اپارٹمنٹ، فلیٹ، کمپارٹمنٹ (ٹرین کا) جمع شِقَق۔ شُقّة جمع شُقَق: مشکل سفر، سفر کی منزل، فاصلہ۔ بُعدُ الشُقَّة او بُعْد الشِقّة: بہت وسیع فاصلہ، طویل مسافت۔ بعيدُ الشُقّة و بعيد الشِقّة: دور دراز، دور، بعید، دور کا۔ القطر الشقيق: برادر ملک اللول الشقيقة: the sister states (برادر ممالک)۔ اشغال شاقّة: قید با مشقت۔ انشقاق: علیحدگی، اختلاف، پھوٹ، کھنڈت، افتراق، نا اتفاقی، ان بن، نزاع، ناموافقت۔ اَشَقّ: زیادہ تکلیف دہ، زیادہ کٹھن، زیادہ مشکل، زیادہ سخت۔ شَقْشَقَ: (پرندہ کا) چہچہانا، چوں چوں، چیں چیں کرنا۔ ـــ ب: بڑبڑانا۔ شَقْشَق: صبح کا دھیرے دھیرے نکلنا۔ شقشق بالحديث

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عن: کے بارے میں گپ شپ اُڑانا، بک بک کرنا، چڑچڑ باتیں کرنا۔شَقْشَقَةُ اللسان: بچوں کی سی باتیں (کرنا)۔شَقْشَقَةُ النهار: سویرا، تڑکا، فجر، صبح کی پہلی کرن۔

شقا: شَقَاً - شَقْاً و شُقُوءًا الناب: کچلی اُگنا۔۔ شَعْرَ الراس: سر کے بالوں میں کنگھا کرکے مانگ نکالنا۔ - رَاسَهُ: کا سر پھاڑنا۔۔ فلاناً: کسی کی مانگ پر مارنا۔المَشْقَأ: مانگ۔المِشْقَأ و المِشْقَاء و المِشْقَاءَة: کنگھا۔

شقح: ا۔ شَقُحَ ۔ شَقَاحَةً: بدشکل ہونا، بدنما ہونا، صفت:شَقِحٌ۔ شَقَحٌ۔ شَقْحاً ہُ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو قبیح بنانا۔شَاقَحَ مُشَاقَحَةً ہُ: آپس میں گالی گلوچ کرنا۔اَشْقَحَ ہُ: کو دور کرنا۔الشُقْحُ و الشَقْحُ: کہتے ہیں: شَقْحاً و شَقُحاً لہ: دوری ہو اس کے لئے۔

۲۔ شَقَحَ ۔ شَقْحاً الشیئَ: کو توڑنا ۔۔ الجوزةَ: اخروٹ کی گری نکالنا۔

۳۔شَقَّحَ البرُ: کھجور کا رنگ پکڑنا۔اَشْقَحَ البسرُ: کھجور کا رنگ پکڑنا ۔۔ النخلُ: درخت خرما پر کھجور کا گدر ہونا، بہار آنا۔الأشقح م شَقْحَاء جمع شُقْحٌ: سرخی مائل، سنہرے بالوں والا۔الشُقْحِی: سرخ رنگ کا۔

ج اَشْقَحَ ہ: کو دور بھیجنا، کسی دور جگہ منتقل کرنا۔

شقذ: ا۔ شَقِذَ ۔ شَقَذًا: نظر بد تیزی سے لگانا، نیند نہ آنا، صفت:شَقِذٌ و شَقِذٌ و شَقِیذٌ و شَقَذَان۔ الشَقَذ (مص): کہتے ہیں:مالہ شَقَذٌ ولا نَقَذٌ: یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ھذا لیس بہ شَقَذٌ ولا نَقَذٌ: اس میں کوئی نقص نہیں۔

۲۔ شَقَذَ ۔ شَقْذًا و شَقِذَ ۔ شَقَذًا: دور چلا جانا۔ شَاقَذَ ہُ: سے دشمنی کرنا، کو دور کرنا۔اَشْقَذَ ہُ: کو دھتکارنا، نکال دینا۔

۳۔الشَقْذ و الشُقْذ و الشِقْذ جمع شُقْذان و شُقَاذَی (ح): گرگٹ کا بچہ۔الشِقْذان (ح) بھیڑیا۔ (ح): حشرات الارض، کیڑے مکوڑے۔ (ح): بھٹ تیتر وغیرہ کے چوزے۔الشُقْذان جمع شِقْذان و الشِقْذ و الشُقْذ (ح): گرگٹ۔ ج: بھیڑیا۔

شقر: ا۔ شَقِرَ ۔ و شَقُرَ ۔ شَقَراً و شُقْرَةً: صاف رنگ ہونا، خوبصورت چمڑی والا ہونا، سنہرے بالوں والا ہونا، خوبصورت بالوں والا ہونا، کا سرخ و زرد رنگ ہونا، صفت:اَشقر مونث شقراء جمع شُقر۔ اِشْقَرَّ: گہرا سرخ و زرد رنگ ہونا۔یہ مجرد شَقِرَ و شَقُرَ سے زیادہ بلیغ ہے۔الشُقْرَة: سرخ و زرد رنگ۔الشُقَّار و الشُقَارَی (ن): سرخ رنگ کی نبات یا گل لالہ۔

۲۔الشُقْر (الشُقُور کا واحد: اہم کام، ضروری کام: کہتے ہیں:افضیتُ الیہ بشُقُورِی: یعنی میں نے اسے اپنے معاملہ سے آگاہ کیا اور اسے ان امور سے مطلع کیا جو دوسروں سے چھپاتا تھا۔بَثَّہُ شُقُورَہُ: اس نے اس سے اپنے حالات کی شکایت کی۔الشُقَر (ح): مرغا، جھوٹ۔کہتے ہیں:جاء بالشُقَر و البُقَر: وہ جھوٹ اور مصیبت لایا۔

۳۔الشَقِرّاق و الشِقِرّاق (ح): فاختہ سے بڑا ایک پرندہ جو الشُقْرُق اور الشَرَقْرَق کے نام سے معروف ہے۔

۴۔الشَقِران او عفنُ الحبوب (ز): پودوں کی ایک بیماری جو خصوصاً دانوں کو لگتی ہے۔

ج شَقِرَ ۔ شَقَراً و شَقُرَ ۔ شُقْرَةً: خوبصورت جسم یا چہرے والا ہونا، روشن چمڑی والا ہونا، سنہرے بالوں والا ہونا، خوبصورت بالوں والا ہونا۔شَقَر: خوبصورت رنگ والا ہونا، سنہرے بالوں والا ہونا۔شُقْرَة: خوبصورت رنگ (جسم و چہرے کا)، سنہرے بالوں کے رنگ کا ہونا، سرخی۔اَشْقَر م شَقْرَاء جمع شُقْر: جسم اور چہرے کے خوبصورت رنگ والا، روشن چمڑی والا، سنہرے اور خوبصورت بالوں والا، سرخی مائل رنگ کا۔

شقص: ا۔ شَقَصَ الذبیحةَ: ذبیحہ کو کاٹ کر حصہ داروں کے لئے برابر حصے کرنا۔الشِقْص: نصیب، حصہ، چیز یا زمین کا ٹکڑا یا قطعہ۔الشَقِیص: شریک، شرکت، حصہ، بہت میں سے تھوڑا۔المُشَقِّص: قصائی۔

۲۔الشَقِیص: عمدہ گھوڑا۔المِشْقَص جمع مَشَاقِص: چوڑا پھل یا چوڑے پھل کا تیر۔

ج شَقْرَقَ: خوش ہونا، خوش باش ہونا، شگفتہ ہونا، اپنا جی بہلانا۔

شقع: شَقَعَ ۔ شَقْعًا فی الاناء: برتن میں منہ ڈال کر پینا۔۔ الحطبَ: لکڑی کا ڈھیر لگانا (عام زبان میں)۔شَقَّعَ لہ: کو گالی دینا، کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا (عام زبان میں)۔

شقف: الشَقَف واحد شَقَفَة: ٹھیکری ٹھیکری کے ٹکڑے۔الشاقُوف (ب): ہتھوڑا، فصیح لفظ الملطاس یا مِلْطَس ہے۔(آرامی زبان کا لفظ)۔الشَقِیف: پہاڑ کی ڈھلوان اور بڑی چٹان، چھوٹا پتھر (سریانی زبان کی عام بول چال میں)۔تشقیف الحطب: لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا (سریانی زبان کی عام بول چال میں)۔

ج شَقَف: اسم جمع واحد شَقَفَة: ہانڈی (برتن) کے ٹکڑے۔

شقل: شَقَلَ ۔ شَقْلاً الدراهمَ: درہموں کا وزن کرنا۔۔ ہُ: کو اونچا کرنا (سریانی زبان کی عام بول چال میں)۔الشَاقُول: شاقول کی ڈوری plumb line۔الشاقول: (plummet) (شاقول ڈوری سے بندھے ہوئے وزن کو کہتے ہیں، جو معمار لوگ کسی دیوار کے سیدھا ہونے کی جانچ کے لئے استعمال کرتے ہیں)۔

ج شَقْلَبَ: اشیاء کو اوندھا کرنا، الٹا کرنا، درہم برہم کرنا۔ تَشَقْلَبَ: درہم برہم ہونا، ڈگمگا کر گرنا، گرنا، قلابازی کھانا۔شَقْلَبَة: قلابازی۔

شقن: شَقَنَ ۔ شَقْنًا العطیّةَ: عطیہ کم دینا۔ شَقُنَ ۔ شُقُونَةً العطاءُ: عطیہ کم ہونا۔صفت:شَقْنٌ و شَقِینٌ و شَقِنٌ۔ اَشْقَنَ العطیّةَ: عطیہ کم دینا۔۔ الرجلُ: کم مال والا ہونا۔المِشْقَن: جوتے اور بوئے ہوئے کھیت کی مٹی کو برابر کرنے کا آلہ۔

شقا: ا۔ شَقَا ۔ شَقْوًا اللّٰہُ فلاناً: اللہ کا کسی کو بدبخت بنانا۔شَقِیَ یَشْقَی شَقًا و شَقَاءً و شَقَاوَةً و شِقَاوَةً و شَقْوَةً و شِقْوَةً: بدبخت ہونا۔صفت: شَقِیٌّ جمع اَشْقِیَاء۔ شَاقَی فلاناً: سے بدبختی میں بڑھنا، (سے زیادہ بدبخت ہونا)، مقابلہ کرنا۔ آپ کہتے ہیں:شاقانی فشقوتُہ: اس نے مجھ سے بدبختی میں مقابلہ کیا تو میں اس پر غالب آیا یعنی میں اس سے زیادہ بدبخت نکلا۔اَشْقَی اللّٰہُ فلاناً: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بدبخت بنانا۔الشقا (مص) والشقاء (مص): سختی، تنگی، بدبختی، غربت، افلاس، بے نوائی

۲۔شَاقَی ہُ فی الحرب و نحوھا: کو لڑائی وغیرہ میں مشغول کرنا۔۔ ہُ علی کذا: سے صبر کرنے میں مقابلہ کرنا۔۔ ہُ (عند العامة): کو ہاتھ سے پکڑ کر ہوا میں بار بار اچھالنا (عام بول چال میں)۔

۳۔اَشْقَی شَعَرَہُ: بالوں میں کنگھی کرنا، کنگھے سے بال بنانا۔المِشْقَی: کنگھی (مشقاء بھی کہا جاتا ہے)۔

۴۔الشَاقِی من الحبال جمع شَوَاقٍ و شُقْیَان: پہاڑ کا لمبا نکلا ہوا گوشہ۔

ج شقا ۔ شَقْوًا ہُ: کو ناخوش کرنا، غمگین کرنا، مصیبت زدہ کرنا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا۔ شَقِیَ ۔ شَقَاءً و شَقَاوَةً و شَقْوَةً: ناخوش ہونا، غمگین ہونا، بدبخت ہونا، مصیبت زدہ ہونا۔۔ ب: کو مشکل پانا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

أَشْقَى ہ: کو ناخوش کرنا، غمگین کرنا، مصیبت زدہ کرنا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا۔شَقَاء و شَقَا: بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی، عسرت، مفلسی، غربت، نکبت، سخت بری حالت، سخت تکلیف، مصیبت، تکلیف، تنگی، مشکل، چاکری۔شَقِی جمع اشقیاء: ناخوش غمگین، بدقسمت، سخت غمزدہ، مصیبت زدہ، مفلس، ملعون، مکروہ، بیچارہ، بدنصیب، بدمعاش، مجرم، بدذات، دھوکے باز، ٹھگ، بدطینت، کینہ جو، شریر، شرارتی، شرانگیز۔شَقْوَۃ و شَقَاوَۃ: بدنصیبی، بدبختی، مصیبت، غم، غمزدگی، سخت غربت، نکبت۔شَقَاوَۃ: شرارت، شوخی، چھیڑ چھاڑ کی نیت، بدطینتی، کینہ جوئی، شرارتی پن۔

شك ا۔ شَكَّ ـ شَكاً فی الامر: کسی بات پر شک و شبہ کرنا۔صفت فاعلی شاكّ صفت مفعولی مَشْكُوك فيه۔ ـ عليه الامرُ: پر معاملہ مشتبہ ہونا، معاملہ بھاری یا ناقابل برداشت ہونا، گراں گزرنا۔شَكَّكَ ہٗ: کو شک میں ڈالنا۔تَشَكَّكَ فی الامر: پر شک وشبہ کرنا۔الشَّكّ (مص) جمع شُكُوك: شک شبہ۔ الشَّكَّة: اسم مرۃ۔الشاكَّة جمع شواكّ: شاک کا مؤنث۔

۲۔ شَكَّ ـ شَكّاً ہٗ بالرمح: کو نیزہ مار کر ہڈی تک بٹھا دینا۔ ـ ت الشَّوكةُ رِجلَهٗ: پاؤں میں کانٹا چبھنا۔ ـ الخيّاطُ الثوبَ: درزی کا کپڑے میں دور دور ٹانکے لگانا۔ ـ الشيءَ الى الشيء: ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔ ـ فی السلاح: پورے ہتھیار پہننا، کامل مسلح ہونا۔صفت شاكّ السِّلاح و شاك فی السلاح جمع شُكّاك۔ ـ القومُ بيوتهم: لوگوں کا اپنے گھروں کو ایک ڈھنگ یا قطار میں بنانا۔ اسی سے عام لوگوں کا قول ہے شَكَّ اللؤلؤ او الخرزَ و غيرهما: اس نے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔الشَّكَّة: پہلو، کندھے وغیرہ کا چبھتا ہوا درد۔ (عام بول چال میں)۔الشِّكَّة جمع شِكَك: اسم نوع ہتھیار پہننے کا ایک انداز۔(کہا جاتا ہے فلانٌ مُختلِف الشِّكَّة: فلاں مختلف اخلاق کا حامل ہے)، لکڑی کی پچر جو کلہاڑی وغیرہ کو تنگ کرنے کیلئے لگائی جائے۔ بيوتٌ شِكاكٌ: ایک ہی قطار میں بنے ہوئے مکانات۔الشَّكِيكَة جمع شَكائِك و شُكُك: طریقہ گروہ۔المِشَكّ جمع مَشاكّ: سوراخ کرنے کا اوزار، زرہ۔مِشْكاكُ العصافير او التبغ: عام بول چال میں: وہ جگہ جہاں رسی یا لکڑی پر چڑیاں یا تمباکو کے پتے اکٹھے رکھے جاتے ہیں۔

۳۔ شَكَّ ـ شَكّاً اليه البلادَ: تک ملک طے کر کے پہنچنا۔ ـ شَكَّ فلاناً و اليه: کی طرف مائل ہونا۔الشُّكَّة: مسافت۔ کہتے ہیں بينهما شُكَّة بعيدة: ان کے درمیان، بہت لمبی مسافت ہے۔

۴۔ الشَّكّ جمع شُكُوك: ہڈی میں چھوٹی درز، چوٹ مار دوائی۔ الشِّكّ (ت): چیک (cheque)۔ الشاكّة جمع شواكّ (طب): حلق کا ورم۔ الشكاكة: زمین کا کونہ۔الشكيكة جمع شكائك و شُكُك: پھلوں کی ٹوکری، عادت: کہتے ہیں دَعْهُ علي شكيكته: اس کو اس کی عادت پر چھوڑ دو۔

ب شَكَّ ـ شَكّاً ہ ب: کو سے چیرنا، چھیدنا۔ ـ ہ ب: پر کچھ رکھنا۔ ـ ہ: کو چھونا، کھونپنا، بھونکنا۔ ـ فی / ب: پر شک کرنا، پر اعتبار نہ کرنا، کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنا، پر شبہ کرنا، کو مشکوک سمجھنا، مشتبہ سمجھنا، پر اعتراض کرنا، کے متعلق شک کا اظہار کرنا، کے متعلق شکوک ذہن میں رکھنا، کے متعلق شک ہونا۔شَكَّكَ ہٗ فی: کو کے متعلق شک میں ڈالنا، کو کے متعلق شک سے بھرنا۔تَشَكَّكَ فی / ب: پر شک کرنا، کے متعلق شکوک و شبہات رکھنا۔تَشَكُّك: شکی ہونا، متشکک ہونا شک و شبہ کی نظر سے دیکھنا۔بلاشكّ، لاشَكّ و لاشكّ، من دون شكّ: بے شک، بلاشبہ، یقیناً، وثوق سے۔لاسبيل الى الشك فيه: غالبًا، یقینی، غیر مشتبہ، مسلّمہ، شک و شبہ سے بالا۔لايتطرق اليه الشك: غالبًا، یقیناً، مَشكوكٌ فيه: مشکوک، مشتبہ، غیر یقینی۔مَشكوكٌ فی امرہ: مشتبہ (شخص)، شَكَّكَ: ادھار پر بیچنا، ادھار پر خریدنا، ادھار لینا۔

شكر: ا۔ شَكَرَ ـ شُكْراً و شُكُوراً و شُكْرَاناً الرجلَ وله: (ل سے زیادہ فصیح ہے)، کی کسی احسان و بھلائی پر تعریف کرنا، کا شکریہ ادا کرنا، شکر کرنا۔ کہتے ہیں شَكَرَ اللّٰهُ سعيَكَ: اللہ تم کو تمہاری کوشش کا بدلہ دے۔شكرتُ لفلان نعمته: میں نے فلاں کی مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کیا۔شكرَ اللّٰهَ و لِلّٰه و باللّٰه و نعمةَ اللّٰه و بنعمة اللّٰه: اس نے اللہ کا شکر کیا، اللہ کی مہربانی کا شکر کیا۔صفت: شاکر جمع شاكرون و شُكّر۔ شاكَرَہٗ: کو اپنی شکر گزاری دکھانا۔تَشَكَّرَ لَهٗ: کا شکریہ ادا کرنا۔ الشَّكُور جمع شُكُر: بہت شکر گزار (مذکر و مؤنث)۔ الشكور (فی اسمائه تعالی): اللہ تعالی جو تھوڑے عمل پر زیادہ بدلہ دیتا ہے۔

۲۔ شكِرَ ـ شَكَراً ت الناقةُ: اونٹنی کے تھنوں کا دودھ سے بھر جانا۔ صفت: شَكِرة جمع شَكِرات و شَكَارَى و شَكْرَى و مِشْكار۔ ـ الرجلُ: بخل کے بعد سخاوت کرنا۔عَيْنٌ شَكْرَى: آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ۔أَشْكَرَ الضرعُ: تھن کا دودھ سے بھرنا۔صفت شَكْرَان م شَكْرَى جمع شُكَارَى و شَكَارَى۔ إِشْتَكَرَت السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ ـ الضرعُ: تھن کا دودھ سے بھرنا۔الشَّكْرَة: اسم مرۃ۔ ـ و الشَّكْرِيَّة: تھنوں کا دودھ سے بھرا ہونا۔الشَّكُور: وہ چہرہ جو بیماری کے نتیجہ میں جسم کے لاغر ہونے پر لاغر نہ ہو۔ المَشْكَرَة: کہتے ہیں نباتٌ مَشْكَرَة: زیادہ دودھ پیدا کرنے والی گھاس۔

۳۔ شَكِرَ ـ شَكْرًا ت الشجرةُ: درخت کی جڑ میں شاخ نکلنا۔أشكر الشجرُ: درختوں کی جڑوں میں سے شاخیں نکلنا۔إشتَكَرَ الشجرُ: درختوں کی جڑوں سے شاخیں اُگنا۔ ـ الجنينُ: پیٹ کے بچے کا روئیں دار ہونا۔الشَّكِير ج شُكُر: بڑے درختوں کی جڑوں میں اگنے والی شاخیں، بڑے پودوں، پروں اور بالوں میں چھوٹے پودے، پر اور بال، درخت کی چھال، گدی اور چہرے کے پاس اگنے والے بال۔شكير الابل: چھوٹے اونٹ۔

۴۔ شاكَرَہٗ الحديثَ: سے گفتگو شروع کرنا۔

۵۔ إشتَكَرت الرياحُ: ہواؤں کا تیز چلنا۔ إشْتَكَرَ الرجلُ فی عَدْوِہ: دوڑنے میں جدوجہد کرنا۔ ـ البردُ او الحرُّ: سردی یا گرمی کا تیز ہونا۔

۶۔ الشاكِرِيّ جمع شاكِرِيَّة: مزدور، نوکر (فارسی)۔ الشاكِرِيَّة: نوکر کی مزدوری، اجرت، ٹیڑھے سر کی چھری (عام بول چال)۔ (ط): دودھ کے ساتھ پکائے ہوئے گوشت کا کھانا (عام بول چال)۔ الشكارة: مالک کی زمین میں چھوٹا قطعہ جسے مالی اپنے لئے کاشت کرتا ہے (عام بول چال)۔ریشم کے کیڑے جنہیں نانبائی اپنی دوکان یا لڑکے اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور ان کو کھلانے کے لئے شہتوت کے پتے جمع کرتے ہیں (عام بول چال)۔ الشَّوكَرَان و الشيكَرَان و الشَّيْكُرَان (ن) ایک زہریلا پودا۔

ب شَكَرَ ـ شُكْراً و شُكْرَاناً ہ / ل ہ / ل / علی: کا کے لئے شکریہ ادا کرنا، کا کے لئے شکر گزار، ممنون، احسان مند، متشکر ہونا۔ ـ ہ / ل: کی تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا۔يُشْكَرُ عليه: شکریہ کے لائق، قابل ستائش، قابل تعریف، ستودہ۔ تَشَكَّرَ ل ہ: کا کے لئے شکریہ ادا کرنا، کا کے لئے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شکرگزار، ممنون، احسان مند، متشکر ہونا۔ شُکراً لك: میں آپ کا شکرگزار ہوں، شکریہ۔ شَکَرَہ شُکراً جزیلاً: کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا۔ شُکری: شکریہ کا۔ شُکران: احسان مندی، شکرگزاری، ممنویت، تشکر، شکریہ، تعریف، ستائش۔ شَکور: بہت شکرگزار، ممنون، احسان مند۔ شاکر: شکرگزار، ممنون، احسان مند۔ مُشکور: شکریہ کا مستحق، قابل ستائش، قابل تعریف، ستودہ۔ شِکارَہ جمع شکائِر: بڑا تھیلا، ٹاٹ یا بورے کا تھیلا۔

شکز: شَکَزَ ـ شَکزاً ہُ: کو انگلی چبھونا، زبان سے تکلیف دینا۔ ــــ ہ بالرُمح: کو نیزہ مارنا۔ الشَکِز و الشَکَز: بدخلق۔ الشَکّاز: فسادی، بدخو۔

شکس: شَکُسَ ـ شَکَاسَۃً و شَکِسَ ـ شَکَسًا: بخیل ہونا، سخت مزاج ہونا۔ صفت: شَکِس و شَکُس جمع شُکُس۔ شَاکَسَ مُشَاکَسَۃً ہُ: کی مخالفت کرنا، سے سختی سے پیش آنا۔ تَشَاکَسَ القومُ: لوگوں کا آپس میں مخالفت کرنا۔ کہتے ہیں: اللیلُ و النہارُ یتشاکسان: یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ الشَکِیس: نحوست۔ المِشْکَس: بخیل، سخت مزاج۔

○ شَکُسَ ـ شَکَاسَۃً و شَکِسَ ـ شَکَسًا: بغض پرور اور کینہ جو ہونا، جھگڑالو ہونا، چڑچڑا ہونا، تنک مزاج ہونا، بدمزاج ہونا، تیکھا ہونا، اکھڑ ہونا، روٹھا ہوا ہونا، جلا بھنا ہونا، تندخو ہونا، معاندانہ ہونا۔ شَاکَسَ ہُ: سے جھگڑنا، سے جھگڑا کرنا۔ تَشَاکَس: ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، جھگڑالو ہونا، چڑچڑا ہونا، تنک مزاج ہونا۔ شَکِس جمع شُکُس: بغض پرور، کینہ جو، جھگڑالو، چڑچڑا، تنک مزاج، بدمزاج، تیکھا، اکھڑ، روٹھا ہوا، جلا بھنا، تندخو، معاندانہ۔ شَکَاسَۃ: بغض، کینہ، جھگڑالو پن، چڑچڑاپن، تنک مزاجی، بدمزاجی، تیکھا پن، اکھڑ پن، تندخوئی، معاندت۔ مُشَاکَسَہ جمع مشاکسات: جھگڑا، اختلاف، نزاع، توتو میں میں، سازش، تیکھا پن، چڑچڑا پن، بدمزاجی، ہرقت کی جھاڑ جھپاڑ۔ تشاکس: لغویت، نامعقولیت، لغو، مہمل یا بے تکی بات، بے تکا پن۔

○ شَاکوش و شُکوس جمع شواکیش: ہتھوڑا۔ ابو شاکوش: شارک (مچھلی)۔

شکص: الشَکِص والشَکِیص: بدخلق۔ الشکیصۃ من الابل: وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں نہ تو دودھ ہو اور نہ ہی وہ حاملہ ہو۔

شکع: ۱۔ شَکِعَ ـ شَکَعًا المریضُ: مریض کا بہت آہ وزاری کرنا۔ صفت: شَاکِع و شَکِع و شَکُوع۔ ــــ الرجُلُ: غضبناک ہونا، دردمند ہونا۔ أَشْکَعَ ہُ: کو غضبناک کرنا، ملول کرنا، ناراض کرنا۔

۲۔ شَکِعَ ـ شَکَعًا الزرعُ: کھیتی کا زیادہ دانوں والی ہونا۔

شکل: ۱۔ شَکَلَ ـ شَکْلاً الامرُ: معاملہ کا مشتبہ ہونا، عام لوگ کہتے ہیں: شَکَل فلانٌ المسألَۃَ: فلاں نے مسئلہ کو بلا تصفیہ چھوڑ دیا، ملتوی کر دیا، التواء میں ڈال دیا۔ ــــ الکتابَ: عبارت پر اعراب لگانا۔ ــــ العنبُ: انگور کا پکنے لگنا۔ شَکِلَ ـ شَکَلاً: بہت مبہم ہونا، مشکل ہونا۔ ــــ الشیءُ: سرخی مائل سفید ہونا۔ شَکَّلَ الامرُ: معاملہ کا مشتبہ ہونا۔ ــــ الکتابَ: عبارت پر اعراب لگانا۔ ــــ العنبُ: انگور کا پکنے لگنا۔ أشکل الامرُ: معاملہ کا مشتبہ ہونا۔ کہتے ہیں: اشکلت علیّ الاخبارُ: خبریں میرے لئے مشتبہ ہو گئیں۔ ــــ الشیُ: بہت مشکل ہونا۔ ــــ الکتابَ: کتاب پر اعراب لگانا۔ ــــ العنبُ: انگور کا پکنے لگنا۔ ــــ النخلُ: کھجور کا پک کر تیار ہونا۔ تَشَکَّلَ العنبُ: انگور کا پکنے لگنا۔ إشْتَکَلَ و إسْتَشْکَلَ الامرُ: معاملہ مشتبہ ہونا۔ الشُکْل جمع أَشْکَال و شُکُول: دشوار امر۔ کہتے ہیں: امورٌ أَشکال: یعنی مشتبہ امور۔ شکلُ الکتابِ: اعراب اور حرکات (کتاب کی)۔ الشَکْلَۃُ: واحد حرکت۔ الشُکْلَۃ: سرخی مائل سفیدی۔ الأَشْکَل جمع شُکْل: سرخی مائل سفید، جس کی آنکھ کی سفیدی میں سرخی ہو۔ الشَکْلاءُ: الأَشکل کا مونث۔ الأُشْکَلَۃ: التباس، مشابہت۔ الشَکِیل: لگام کے لوہے پر لگا ہوا خون ملا جھاگ۔ المُشْکِل و المُشْکِلَۃ جمع مَشَاکِل و مُشْکِلات: دشوار یا مشتبہ امر۔

۲۔ شَکَلَ ـ شَکْلاً المریضُ: بیمار کا روبصحت ہونا۔ شَکَّلَ الشیءَ: کسی چیز کی تصویر بنانا۔ شَاکَلَ مُشَاکَلَۃً ہُ: کے مشابہ ہونا، کے موافق ہونا۔ أَشْکَلَ المریضُ: بیمار کا روبصحت ہونا۔ تَشَکَّل: صورت اختیار کرنا۔ تَشَاکَلا: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، موافق ہونا۔ الشَکْل جمع اشکال و شُکُول: مشابہت، کسی چیز کی محسوس یا وہمی شکل وصورت، مثل، نظیر، قصد وارادہ۔ (کہتے ہیں: ــــ الته عن شکل فلان: میں نے فلاں کے ارادہ کے متعلق پوچھا)، جو آپ کے موافق ہو اور آپ کے لئے موزوں ہو۔ (آپ کہتے ہیں: لیس ھذا من شکلی: یعنی یہ بات نہ تو مجھ سے موافقت رکھتی ہے اور نہ میرے لئے موزوں ہے) منظر کا حسن۔ کہتے ہیں: فلانٌ شکلُہُ جمیلٌ: وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے یا خوش شکل ہے، خوبرو ہے۔ فلانٌ یحب الشکلَ: فلاں شخص خوبصورت منظر پسند کرتا ہے۔ الأَشکال: موتی یا چاندی کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے زیورات۔ الشِکْل: مثل۔ الشُکْلَۃ و الشَاکِل: مشابہت۔ کہتے ہیں: فیہ شُکْلَۃٌ أو شَاکِلٌ من ابیہ: اس میں اپنے والد کی مشابہت ہے۔ الأَشْکَل جمع شُکُل: کہتے ہیں: ھذا أشکلُ بہ: یہ اس کے مشابہ ہے۔ الأُشْکَلَۃ: مشابہت۔ کہتے ہیں: فیہ أُشْکَلَۃٌ من ابیہ: اس میں اپنے باپ کی مشابہت ہے۔ الشَاکِلَۃ جمع شَوَاکِل: شاکل کا مونث: شکل صورت طریقہ، راستہ، نیت۔ التَشْکِیلَۃ: مجموعہ۔ کہتے ہیں: تشکیلۃٌ من الدّبابات: ٹینکوں کا مجموعہ۔ المُشَکَّل: صورت وشکل والا۔ المُشَاکَلَۃ (مص): کہتے ہیں: فی فلانٍ مُشَاکَلَۃ من ابیہ: فلاں میں اپنے باپ کی مشابہت ہے۔

۳۔ شَکَلَ ـ شَکْلاً و شَکَّلَ الدابۃَ بالشکال: جانور کو پائے بند ڈالنا۔ یعنی پائے بند سے جانور کے پاؤں باندھنا۔ الشِکَال جمع شُکُل: وہ رسی جس سے جانور کے پاؤں باندھے جاتے ہیں۔ پائے بند، وہ دھاگا جو اونٹ کے پیش بند اور تنگ کے درمیان باندھتے ہیں۔ اگلی پچھلی ٹانگ باندھنے کا بندھن۔ ــــ فی الخیل: گھوڑے کی تین ٹانگوں کا سفید رنگ اور چوتھی کا اور رنگ ہونا۔ الشَکْلاءَ: حاجت، ضرورت۔ الشَاکِلَۃ جمع شَوَاکِل: حاجت۔ الأَشْکَلَۃ: ضرورت۔ آپ کہتے ہیں: لنا عندہ أشکلۃٌ: ہماری اس کے پاس ایک (اٹکی ہوئی) ضرورت ہے۔ المَشْکُول: پائے بند سے بندھا ہوا۔ ــــ من الخیل: وہ گھوڑا جس کی تین ٹانگیں سفید رنگ کی ہوں اور چوتھی مخالف رنگ کی۔

۴۔ شَکَلَ ـ شَکْلاً و شَکَّلَت المرأۃُ شَعْرَھا: عورت کا دائیں بائیں جانب زلفیں گوندھنا۔ شَکِلَ ـ شَکَلاً ت المرأۃُ: عورت کا ناز وانداز والی ہونا۔ تَشَکَّلَتِ المرأۃُ: عورت کا اپنے بالوں میں پھول لگانا، عورت کا پھولوں سے اپنے آپ کو سجانا (عام بول چال)۔ الشکل جمع أشکال و شکول: عورت کا ناز ونخرہ۔ الشِکْل: عورت کا ناز ونخرہ۔ امرأۃ شَکِلَۃ: ناز ونخرے والی عورت۔ التَشْکِیلَۃ: عورت کے بالوں میں لگے ہوئے پھول، گلدستہ (عام

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بول چال)۔ المرأة المُشكَّلة: عورت جس نے بالوں میں پھول لگا رکھے ہوں (عام بول چال)۔

۵۔ الشاكِلة جمع شَوَاكل: کولہا، کمر، کنارا، پہلو طرف۔ جیسے شاكلة الطريق: راستہ کی ایک طرف۔ اصاب شاكِلةَ الصواب و فلانٌ يرى برأيه الشواكِلَ: اس نے درستی کا پہلو پالیا۔ وہ اپنی رائے سے درستی کے پہلو دیکھ لیتا ہے۔ الشواكِل: بڑے راستہ سے نکلنے والے راستے۔ کہتے ہیں هذا طريق ذو شَوَاكِل: اس راستے سے بہت سے راستے پھٹتے ہیں۔ الشَّوكلة: کونا، جانب۔ (ن) شَوكَل کا واحد۔ ایک کانٹے دار درخت۔

○ شَكَل ـ شكلاً ہ: جانور کی ٹانگیں ایک ساتھ رسی سے باندھنا (تاکہ وہ زیادہ دور نہ جا سکے) ـــ ہ: عبارت پر اعراب لگانا ـــ: مشکوک ہونا، مشتبہ ہونا، مبہم ہونا، الجھا ہوا ہونا، مشکل ہونا۔ شَكُل: بمعنی شَكَل:۔ ہ: کو بنانا، تخلیق کرنا، ڈھالنا، تخلیق کرنا، منظم کرنا، ترقی دینا، میں تنوع پیدا کرنا، کو بدلنا، مختلف کرنا، متنوع کرنا، بوقلموں کرنا، میں رنگارنگی یا تنوع پیدا کرنا۔ أشْكَل علي: کیلئے مشکوک ہونا، مشتبہ ہونا، مبہم ہونا، غیر واضح ہونا، دھندلا ہونا، پیچیدہ ہونا، الجھا ہوا ہونا، مشکل ہونا۔ تشَكَّل: بننا، شکل اختیار کرنا، ڈھلنا، تخلیق پانا، منظم ہونا، ترقی پانا، متنوع ہونا، بوقلموں ہونا، مشتبہ ہونا، درجہ بند ہونا، کم ڈھلان والا ہونا، مختلف درجے بندیاں کرنا ـــ لِ: کے لئے مادی صورت میں آنا، مرئی شکل میں ظاہر ہونا۔ تشَكَّل بشكله: کی شکل اختیار کرنا۔ استشكل ہ: کو مشتبہ سمجھنا نیز بمعنی أشكَلَ۔ شَكْل جمع أشكال و شُكول: مشابہت، مماثلت، مظہر خارجی، شکل، صورت، نقشہ، ساخت، وضع قطع، بناوٹ، کاٹھی (انسان کی) ادراک کی صورت، مثال، نمونہ، قطع، کاٹ، طریقہ، انداز، اسلوب، قسم۔ شكلاً: رسمی طور پر۔ هم و اشكالهم: وہ اور ان جیسے۔ شكلي: رسمی۔ شكليات: ضابطے کی کارروائیاں۔ شِكل: نازنخرہ، عشوہ گری۔ شِكلة: نازنخرہ والی عشوہ طراز عورت، نازنخرے والی عشوہ گر۔ شُكلي: لڑاکا، جھگڑالو، چڑچڑا۔ شِكال جمع شكالات و شُكُل: بیڑی، سانکل، سنگلی۔ تشكيل: بنانا، بناوٹ، ڈھلائی، تخلیق، تنظیم، ترقی، کوچ کی وردی۔ تشكيلات: ترتیبات، تنظیمات۔ تشكيلة: یکساں مختلف میل، انتخاب، تنوع، بناوٹ، ترتیب۔ مُشاكَلة: مشابہت، مماثلت۔ إشكال: ابہام، تاریکی، دھندلا پن۔ تشاكُل: مشابہت، مماثلت۔ شاكِلة: راستہ، طریقہ، رویہ، انداز۔ جمع شواكل: پہلو، کوکھ، جانب، چڈا، جانگھ۔ على شاكلةِ: کے انداز میں، کی قسم کا، جیسا، کے مانند۔ على شاكلتهم: ان جیسا، ان کی طرح۔ كان على شاكلته: اسی قسم کا، اسی طرز، انداز، اسلوب کا ہونا۔ مُشَكَّل: مختلف، طرح طرح کا، گوناگوں، کئی، متعدد، متفرق، بوقلموں، بااعراب۔ مُشْكِل: الجھا ہوا، مبہم، مشتبہ، مشکوک، غیر واضح، دھندلا، گدلا، تیرہ و تار، مشکل، پیچیدہ، الجھا ہوا، مسئلہ، ناحل شدہ سوال۔ مُشْكِلة: مسئلہ، قضیہ، ناحل شدہ مسئلہ، قضیہ، مشکل۔

شكم: ۱۔ شَكَمَ ـ شَكْمًا ہُ: کو دینا، بدلہ دینا ـــ فلانًا: کو رشوت دینا ـــ شَكْمًا و شَكِيمًا ہُ: کو دانت سے کاٹنا۔ شَكِمَ ـ شَكَمًا: بھوکا ہونا۔ أشْكَمَ ہُ: کو بدلہ دینا۔ الشكم و الشُّكمى: بدلہ، عطیہ، رشوت۔ الشكيمة جمع شكائم و شُكُم و شَكِيم: تکبر، ظلم کی داد رسی ـــ من اللجام: لگام کا وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں رہتا ہے۔ ذو شكيمة يا شديد الشكيمه: خوددار، غیرت مند، جو تابع نہ ہو۔

۲۔ الشكم (ح): شیر۔ الشكيمة جمع شكائم و شُكُم و شَكِيم: عہد، طبیعت، مشابہت۔

○ شَكَمَ ـ شَكْمًا ہ: (جانور) کو لگام دینا ـــ ہ: کو رشوت دینا، خاموش کرنا، کے منہ میں کپڑا اٹھونسنا، کی زبان بندی کرنا۔ شكيمة جمع شكائم و شُكُم و شكيم: چھوٹا سا ٹکڑا، رہانہ۔ جمع شكائم: (پہیے کا) بریک (brake)، آسانی سے قابو میں نہ آنا، نہ جھکنا، ضد، ہٹ دھرمی، توہین تذلیل، تحقیر۔ شديد الشكيمة: ضدی، سرکش، ہٹ دھرم، ہٹیلا، ہٹ کا پکا، منہ زور۔ قوة الشكيمة: زور، طاقت، ہمت، توانائی۔ قَوِيُّ الشكيمة: توانا، طاقت ور، باہمت، مستعد، سرگرم، چاق، چوبند، زوردار، جاندار، ہوشیار، چست، پھرتیلا۔

شكه: شَاكَهَ شِكَاهًا و مُشاكهةً ہُ: کے مشابہ ہونا۔ أشْكَهَ الامرُ: کام دشوار ہونا۔ تشَاكَها: ایک دوسرے سے مشابہ ہونا۔

شكا: ۱۔ شَكَا ـ شَكْوًى و شَكْوًا و شَكَاةً و شَكَاوَةً و شِكَايَةً و شَكِيَّةً اليه زيدًا: سے زید کی شکایت کرنا۔ شاكٍ: شکایت کرنے والا۔ مَشْكُوٌّ و مَشْكِيٌّ: جس کی شکایت کی جائے۔ مَشْكُوٌّ اليه: جس سے شکایت کی جائے۔ شُكوى: شکایت ـــ الأُمَرَ الى العلة: بات یا بیماری کا گلہ کرنا ...

مند ہونا ـــ امرهُ إلى الله: اللہ سے اپنے مسئلہ کا اظہار کرنا۔ شكَّى تشكيةً الشاكيَ: کی شکایت ماننا۔ شاكى ہُ: کی شکایت کرنا، اپنی افتاد سے مطلع کرنا۔ أشكى إشكاءً فلانًا: کی شکایت قبول کرنا، کو شاکی پانا، کے سامنے اپنی شکایت بیان کرنا یا اپنی تکالیف شوق کا ذکر کرنا، کے ساتھ قابل شکایت برتاؤ کرنا، کی شکایت کو دور کرنا (ضد)۔ ـــ فلانًا من فلان: سے کسی کی خوشنودی کے لئے کوئی چیز لینا۔ کہتے ہیں: هو يُشْكِي بكذا: یعنی اس پر فلاں الزام لگایا جا رہا ہے۔ تشَكَّى اليه: سے شکایت کرنا۔ تشاكى تشاكيًا القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے کی شکایت کرنا۔ إشتكى اليه: سے شکایت کرنا۔ الشكوى جمع شكاوى: جس چیز کی شکایت کی جائے۔ الشكوة جمع شكوات و شكاء: شکا کا اسم مرۃ۔ الشكيّ م شكيّة جمع شكايا: جس کی شکایت کی جائے ـــ و الشاكي: شکایت کرنے والا۔

۲۔ شكا ـ شَكْوَى و شَكْوًا و شَكَاةً و شَكَاوَةً و شِكَايَةً و شَكِيَّةً مرضَهُ للطبيب: طبیب سے اپنے مرض کی حالت بیان کرنا۔ شَكْوًا و شَكْوَى و شَكَاةً المرضُ فلانًا: بیماری کا کسی کو دکھ دینا۔ تشَكَّى: بیمار ہونا ـــ من جرحٍ: زخم سے کو درد ہونا۔ اِشتكى: بیمار ہو جانا ـــ من جرحه: کا اپنے زخم کی وجہ سے تکلیف میں ہونا۔ الشكو والشكوى والشكاء والشكاة والشكواء: بیماری۔ الشكوة جمع شكوات و شكاء: شكو بمعنی بیماری کا واحد۔ الشكيّ م شكيّة جمع شكايا: دردمند، دکھی ـــ و الشاكي: تھوڑی بیماری والا، معمولی مریض۔

۳۔ الشكو (ح): چھوٹا اونٹ۔ الشكوة و الشُّكيّة: دودھ یا پانی کے لئے چمڑے کا برتن۔ رجلٌ شاكي السلاح: ہتھیار بند، رعب داب کا آدمی (شائک کا الٹ ہے)۔ الشكاة: عیب۔ المشكاة: طاق، چراغ رکھنے کا طاق، چراغ۔

شكى: شَكَى ـ شَكْيًا اليه: سے شکایت کرنا۔ الشكيّة: بقیہ۔

○ شكا ـ شَكْوًا و شَكْوَى و شكاةً و شكايةً و شكيّةً ہ/ہ/من: کی شکایت کرنا۔ لـ/الى: سے ـــ ہ/من: کے بارے میں شکایت کرنا۔ شکایت کرنا۔ ہ/ہ/من: کی، کے بارے یا کے خلاف شکایت کرنا یا استغاثہ دائر کرنا۔ لـ/الى: کے ہاں، پاس۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہ: بخار وغیرہ ہونا، میں مبتلا ہونا۔ تَشَکّی: بمعنی شکا۔ تَشَاکی ہ: کی، کے بارے میں ایک دوسرے سے شکایت کرنا۔ اِشتکی: بمعنی شکا۔ شَکْوَۃ: شکایت، شکوہ، استغاثہ، وجہ شکایت۔ جمع شَکَوات و شِکَاء: مشکیزہ (پانی یا دودھ کیلئے)۔ شَکْوَی جمع شَکَاوَی: شکایت، الزام دینا، متہم کرنا، تکلیف، مصیبت، وجہ، شکایت۔ شَکَاۃ: شکایت، الزام دینا، متہم کرنا، تکلیف، مصیبت، وجہ شکایت۔ شِکَایَۃ: شکایت، الزام دینا، متہم کرنا، اتہام، تکلیف، مصیبت، وجہ شکایت۔ شَکِیَّۃ: شکایت، اتہام، تکلیف، مصیبت، وجہ شکایت۔ شَکَّاء: شکایتیں کرنے کا عادی، شکوہ شکایت کرنے والا۔ مِشکاۃ جمع مِشْکَاوَات و مَشَاکِی: طاق (چراغ رکھنے کے لئے) چراغ، لیمپ، آویزاں لیمپ۔ شاکٍ: شکایت کنندہ، مستغیث۔ مشکُوّ منہ: جس کی شکایت کی گئی ہو، متہم، جس پر الزام لگایا گیا ہو، ملزم، مدعا علیہ۔ مُشتَکٍ: شکایت کنندہ، مستغیث۔ مُشتکی علیہ: جس کی شکایت کی گئی ہو، متہم، ملزم، مدعا علیہ۔ شِکُوریا: کاسنی (chicory)۔ شُکُولاتَہ: چاکلیٹ (chocolate)۔ شَاکُوس و شَکُوس: ہتھوڑا۔ ابو شاکوس: شارک (مچھلی)۔

شلّ: ۱۔ شَلَّ ـ شَلًّا و شَلَلًا و شُلَّ و أُشِلَّ تْ یَدُہٗ: کے ہاتھ کا سوکھنا، بیکار ہونا، شل ہونا۔ اَشَلّ: یعنی جس کا ہاتھ سوکھ گیا ہو۔ شَلَّاء: سوکھا ہوا ہاتھ تیر اندازی و نیزہ بازی کے استاد کے حق میں دعا کے طور پر کہا جاتا ہے: لَاشُلَّتْ یداكَ یا لَا شُلّت عشرُكَ: یعنی خدا کرے تمہارے ہاتھ یا ہاتھوں کی دس انگلیاں بیکار نہ ہوں۔ أَشَلّ: خشک ہاتھ والا ہونا۔ شَلَالِ (مبنی بر کسر)۔ شَلَل کا اسم۔ تیر انداز کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں: لَاشَلَالِ: خدا کرے تمہارا ہاتھ بیکار نہ ہو۔ الشَّلَل (طب): ہاتھ کی خرابی۔

۲۔ شَلَّ ـ شَلًّا ت العینُ دمعَھا: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِنْشَلَّ المطرُ: بارش کا برسنا۔ ـ السیلُ: سیلاب کا بڑھنا شروع ہونا۔ الشُّلَل و الشُّلُل و الشُّلُول: تیز رفتار۔ الشَّلِیل جمع أَشِلَّۃ: وادی کے درمیان پانی بہنے کا بڑا نالہ۔ الشَّلَّالات واحد شَلَّال: آبشار۔ رجُلٌ مِشَلٌّ: تیز چلنے والا۔

۳۔ شَلَّ ـ شَلًّا الثوبَ: کپڑے کی ہلکی سلائی کرنا۔ ـ الدرعَ و شَلَّھا علیہ: زرہ پہننا۔ الشِّلّۃ عند الخیاطین دھاگے کا گچھا۔ الشِّلَالۃ عند الخیاطین کپڑے کی ایک پرت کو دوسرے پرت سے جوڑنے کے لئے ان کے کناروں کو سینا۔ الشَّلِیل جمع أَشِلَّۃ: اونی کپڑے کا ٹکڑا جو جانور کے پٹھے پر کجاوہ کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، بڑی زرہ کے نیچے پہنی جانے والی چھوٹی زرہ، زرہ کے نیچے پہنا جانے والا کرتہ۔ المِشَلّ: گردن پر ڈالنے کا کپڑا۔

۴۔ شَلَّ ـ شَلًّا و شَلَلًا الابلَ: اونٹوں کو ہانکنا، ہکالنا۔ کہتے ہیں: مرّ فلان یشُلُّھم بالسیف: فلاں شخص لوگوں کو تلوار کے زور پر ہانکتا گزرا۔ الصبحُ یشُلُّ الظلامَ: صبح تاریکی کو بھگا دیتی ہے۔ ـــ الشیءَ: چیز کو کاٹنا۔ اِنْشَلَّ الذئبُ فی الغنم: بھیڑیے کا بکریوں میں تباہی مچانا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا بھاگنا۔ الشَّلَّۃ: اسم مرۃ۔ الشِّلَال: متفرق لوگ۔ کہتے ہیں: جاء القومُ شِلَالًا: لوگ اونٹوں کو باہر نکالتے ہوئے آئے۔

۵۔ الشَّلَل: کپڑے کا داغ جو دھونے سے نہ جائے۔ الشُّلُل و الشُّلُل و الشُّلُول: خوش مزاج ساتھی۔ الشَّلَّۃ و الشُّلَّۃ و الشُّلَّی: دور کا مقصد، سفر کی سمت۔ رجُلٌ مِشَلٌّ: اچھی صحبت والا آدمی۔

۶۔ شَلْشَلَ شَلْشَلَۃً و شِلْشَالًا الماءُ: پانی کا ٹپکنا۔ ـ الماءَ و بالماء: پانی ادھر اُدھر چھڑکنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: شَرْشَرَ۔ ـــ الماءَ: پانی ٹپکانا۔ ـــ السیفُ الدمَ: تلوار کا خون گرانا۔ صفت مفعولی: شَلْشَلٌ و مُشَلْشِلٌ و مُشَلْشَلٌ: یعنی ٹپکایا ہوا پانی یا تلوار کا گرایا ہوا خون۔ تَشَلْشَلَ الماءُ: پانی کا پھیلنا اور بکھرنا۔ ـــ السیفُ بالدم: تلوار کا خون گرانا۔ کہتے ہیں: جاء و جرحُہٗ یتشلشل دمًا: وہ ایسی حالت میں آیا کہ زخم سے خون ٹپک رہا تھا۔ الشَّلْشَل: ٹپکنے والی مشک۔ ماءٌ شَلْشَلٌ: مسلسل ٹپکنے والا پانی۔ ماءٌ ذو شَلْشَل: قطرہ قطرہ ٹپکنے والا پانی۔

۷۔ الشَّلْشَل و الشُّلْشُل من الرجال: تیز و سبک دست، خوش مزاج۔

○ شَلَّ ـ شَلًّا و شَلَلًا: خشک ہونا، مرجھانا، لنگڑا ہو جانا، نشو و نما کی ہوئی نہ ہونا، کو فالج ہونا، پر فالج گرنا، لولا لنگڑا ہونا۔ شَلَّ ہ: کو بے بس کرنا۔ شَلَّ حرکتَہٗ: کو گھیرے میں لینا، کچل دینا۔ اَشَلَّ ہ: (ہاتھ) کو مرجھا دینا، کی نشو و نما روک دینا، بے اثر کرنا، کا اثر توڑنا، کو روک دینا۔ اِنْشَلَّ: مفلوج ہونا، لنگڑا لولا ہونا۔ شَلَّۃ: منزل مقصود۔ شِلَّۃ جمع شِلَل: (سوت کا) لچھا یا گچھا، کنڈلی، پیچ، پیچا، ریل (spool)، جماعت، گروہ۔ شَلَل: فالج، مفلوج کرنا (مجازاً)۔ شَلَل الاطفال: بچوں کا فالج۔ الشَّلْشَل الاهتزازی: رعشہ۔ مشلول: فالج زدہ، مفلوج، ماؤف، لنگڑا لولا۔ اَشَلّ: مرجھایا ہوا، نشو و نما کا ہوا (ہاتھ)، مفلوج، فالج زدہ، ماؤف، لنگڑا لولا۔ شَلَّال جمع شَلَّالات: آبشار۔ ـــ شَلَبِی: بانکا، چھیل چھبیلا، خوبصورت۔ شَلَّتَ: ٹھوکر لگانا، لات مارنا، ٹھکرانا۔ شَلْتَۃ جمع شَلْتَات و شِلَت: گدا (mattress)۔

شلح: شَلَّحَ تَشْلِیحًا ہٗ: کو ننگا کرنا۔ اسی سے ہے: تشلیحُ قطاعِ الطرق للمسافرین: راہزنوں کا مسافرین سے پیسے اور زیورات وغیرہ چھین لینا۔ شلح الثیاب: کپڑے اتارنا (سریانی)۔ الشَّالُوح: لمبی لکڑی (عام بول چال)۔ الشَّلْحَاء و الشَّلْحَی جمع شُلَح: تیز دھار تلوار (تلوار کا ایک آلہ ہونے کے لحاظ سے مونث لائی گئی ہے)۔ المِشْلَح: لبادہ، چوغہ (عام بول چال)۔ المُشَلَّح: حمام کا وہ کمرہ جہاں کپڑے اتارے جاتے ہیں۔

○ شَلَحَ ـ شَلْحًا ثیابَہٗ: کپڑے اتارنا۔ ـ راہب (پادری کا) مذہبی خدمات سے دستبردار ہونا۔ شَلَّحَ ہ: کو ننگا کرنا، کو لوٹنا۔ مَشْلَح جمع مَشَالح: اون یا اونٹ کے بالوں کا لمبا چوغہ، لبادہ جس پر سنہری سوزن کاری کی گئی ہو۔ تشلیح: لوٹنا، ڈاکہ۔ مُشَلَّح: عمومی حمام میں سنگار خانہ۔ شَلْشَل: ٹپکنا، رِسنا۔

شلخ: شَلَخَ ـ شَلْخًا ہٗ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا۔ ـ الشَّلْخ (مص): اصل، جڑ، رگ، آدمی کی اولاد۔ کہتے ہیں: ھو شَلْخُ سُوْءٍ: وہ بدی کی اولاد ہے۔ الشَّلِیخ (ط): گوشت، دودھ اور پیاز سے تیار کردہ کھانا۔ بعض اسے الشاکریۃ کہتے ہیں۔

شلط: الشَّلْطَاء: چھری۔ الشِّلْطَۃ جمع شِلَط: باریک اور لمبا تیر۔

شلغ: شَلَغَ ـ شَلْغًا الرأسَ: سر کچلنا۔

شلف: شَلَفَ ـ شَلْفًا البنتَ: لڑکی کو اغوا کرنا۔ شَلِیفۃ: مغویہ (سریانی کی عام بول چال میں)۔ الشِّلْفُ من الحدید: لوہے کی سلاخ (عام بول چال)۔ الشَّلْفَۃ عند العامۃ: نیزہ، برچھا، برچھی، بلم نیزہ کی انی، انی (سریانی)۔ الشالوف عند العامۃ: آبشار، آبشار گرنے کی جگہ۔ الشلاّفۃ من النساء: بدکار عورت۔

○ شِلْفَۃ: (ریزر کا) بلیڈ (blade)۔

شلق: ۱۔ شَلَقَ ـ شَلْقًا ہٗ: کو لمبائی میں پھاڑنا یا چیرنا۔ ـــ ہٗ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ ـــ الحائطُ عند العامۃ: دیوار کا کچھ حصہ گر جانا یا پھٹ جانا۔ الشِّلْقَاء: چھری۔ الشَّلْقَۃ و الشِّلْقَۃ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دیوار وغیرہ کے کچھ حصہ کا گرنا یا پھٹ جانا (عام بول چال)۔ المِشْلِيق: ہنستے وقت منہ کھولنے والا۔

۲۔ اِشْتَلَقَ: غور کی آنکھ سے دیکھنا (عام بول چال)۔

۳۔ الشِّلْق و الشَّلِق (ح): الاشلاق کا واحد: نرم کانٹوں کی ایک مچھلی۔ الشَّلْقَة و الشِّلْقَة: گوہ کے انڈے۔ الشَّلَقَة: گھوڑے سدھانے والے۔ الشَّلَّاق: فقیروں کا تھیلا۔ الشُّولَقِي: مٹھائی فروش، مٹھائی کا بہت دلدادہ۔

○ شلق (سوکھی گھاس کا) گٹھا، گانٹھ۔

شلم: الشِّلَّم: چنگاری۔ کہتے ہیں: فلانٌ يتطاير شِلَّمُهُ: یعنی غصہ سے اس کے منہ سے چنگاری نکلتی ہے۔ الشَّلْمَة: اچنبھا، خلاف توقع بات۔ الشَّيْلَم والشَّوْلَم والشَّالَم (ن): گیہوں میں اگنے والا کڑوا دانہ۔ (ن) جو یا بغیر چھلکے کا جو۔

شلن: الشِّلِن: شلنگ (انگریزی نقدی)

شلا: ا۔ شَلَا - شَلْوًا: چلنا۔ أَشْلَى إِشْلَاءً الكلبَ على الصيد: کتے کو شکار پر اُکسانا، ابھارنا۔ ـــ النَّاقَةَ: اونٹنی کو دودھ نے یا چرنے کے لئے بلانا۔ الشِّلَا: ہر چیز کا جسم۔ الشِّلْو جمع أشلاء: ہر چیز کا جسم، گوشت کا ایک عضو۔ (ح): اونٹنی کا بچہ، ہر کھال کھینچا ہوا، جس میں سے کچھ کھا لیا گیا ہو اور کچھ چھوڑ دیا گیا۔ اشلاء اللجام: لگام کے پرانے تسمے۔ ـــ الانسان: انسان کے اعضاء (متفرق ہونے کے بعد) کہتے ہیں: بنو فلان أشلاءٌ فی بنی فلان: فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹوں میں ان کی باقیات ہیں۔ الشِّلِيّ: ہر چیز کے باقیات۔ الشَّلِيَّة جمع شَلَايَا: مال کا بقیہ، گوشت کا ٹکڑا۔ المُشَلَّى: نحیف، دبلا۔

۲۔ شَلَا - شَلْوًا الشيءَ: چیز کو بلند کرنا، اونچا کرنا۔ شَلَّى الماءَ الحارَّ: گرم پانی کو بار بار ہاتھ سے اونچا لیجا کر گرانا تا کہ ٹھنڈا ہو جائے (عام بول چال میں)۔

۳۔ اِشْتَلَى فلانًا: کو چھڑانا۔ اِسْتَشْلَى هُ: کو چھڑانا۔

۴۔ اِسْتَشْلَى: غضبناک ہونا۔

شم: شَمَّ - شَمًّا و شَمِيمًا و شِمِّيمَى الوردَ: (گلاب کے پھول کو) سونگھنا۔ شُمَّ: آزمائش کیا جانا۔ شَمَّمَ الزهرَ: پھول سونگھنا۔ ـــ ه الزهرَ: کو پھول سنگھانا۔ ـــ شامًّا مُشَامَّةً و تشامًّا: ایک دوسرے کو سونگھنا۔ أَشَمَّ هُ الوردَ: کو گلاب کا پھول سنگھانا۔ کہتے ہیں: أَشْمِمْنِي يَدَكَ: مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ۔

تَشَمَّمَ هُ: کو آہستہ آہستہ سونگھنا۔ اِسْتَشَمَّ الشيءَ: کو سونگھنا۔ اِشْتَمَّ هُ: کو سونگھنا چاہنا، سونگھنا۔ الشَّمّ (مص): سونگھائی۔ الشَّمَم (ضد): نزدیکی، دوری۔ الشَّامَّة: سونگھنے کی حس۔ الشَّمَّام و الشَّمُوم: بہت سونگھنے والا۔ الشَّمَّامات: عمدہ خوشبوئیں۔ الشَّمِيم: عمدہ خوشبو۔ المَشْمُوم (مفع): سونگھی ہوئی چیز مشک۔

۲۔ شَمَّ - شَمَمًا: تکبر کرنا۔ ـــ الجبلُ او الانفُ: پہاڑ یا ناک کی چوٹی کا بلند ہونا۔ صفت: اَشَمّ و شَمِيم۔ أَشَمَّ: سر اونچا کر کے گزرنا۔ کہتے ہیں: عرضتُ عليه كذا فاذا هو مُشِمّ لا يريده: میں نے اسے کوئی چیز پیش کی تو اس نے ناک اونچی کر لی گویا وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ الشَّمَم: ناک کے بانسہ کا ستواں اور خوبصورت ہونا۔ شَمَّامَةُ القِنْدِيل: وہ جگہ جہاں باہر نکلی ہوئی بتی کو آگ دکھا کر لیمپ روشن کیا جاتا ہے۔ الشَّمِيم: بلند، اونچا۔ الأَشَمّ م شَمَّاء جمع شُمّ: مغرور سردار، کریم، اونچی ناک والا، حساس ستواں ناک والا، نخوت پسند، نک چڑھا، متکبر، غیور، خاندانی، نہایت معزز۔

۳۔ أَشَمَّ القارئُ الحرفَ: قاری کا اشمام کر کے وقف کرنا۔ الإشمام عند القراء او النحاة: (قاریوں یا نحویوں کے نزدیک) ہونٹ کے ساتھ بغیر آواز نکالے حرکت کی طرف اشارہ کرنا۔

۴۔ أَشَمَّ عن الامرِ: معاملہ سے الگ ہونا۔

۵۔ الشَّمَّام (ن): سردا۔

شمب: الشمبانیا: فرانس کی ایک عمدہ شراب۔

○ شَمَّ - شَمًّا و شَمِيمًا ہ: کو سونگھنا، سونگھ کر دیکھنا۔ ـــ ہ: ناس لینا۔ ـــ من: سے نکلنا، جاری ہونا۔ شم النسيم او الهواء: تازہ ہوا میں سانس لینا، تازہ ہوا کھانا، چہل قدمی کرنا، سیر کرنا۔ ـــ شمما: تکبر کرنا، نخوت پسند ہونا، نک چڑھا ہونا۔ شَمَّمَ ہ ھ: کو کچھ سونگھنے کے لئے دینا، کو کچھ سنگھانا۔ اَشَمَّ: بمعنی شَمَّمَ۔ تَشَمَّمَ ہ: کو سونگھنا، سونگھ کر دیکھنا۔ تَشَمَّمَ الأخبارَ: خبروں کی ٹوہ رکھنا۔ اِشْتَمَّ ہ: کچھ سونگھنا، کو سونگھ کر دیکھنا۔ ـــ ہ من: کو سے سمجھنا، سے کچھ خیال کرنا، سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ۔ شَمّ: سونگھنا، سونگھنے کی حس۔ شم النسيم: مصر میں مارچ کے اواخر، اپریل میں یا مئی کے اوائل میں منائی جانے والی عام تعطیل۔ شَمَّة: نسوار کی چٹکی، بو، کسی چیز کا ہلکا سا کش، مہک۔ شمم: غرور، تکبر ... شمامة: ...

تمباکو کی نسوار لینے والا۔ شَمَّام: اسم جمع واحد شَمَّامة: سردا۔ أَشَمّ م شمّاء جمع شُمّ: حساس یا خوبصورت ناک والا، متکبر، نخوت پسند، نک چڑھا، غیور، خاندانی، از حد محترم و معزز۔ شَامَّة: سونگھنے کی حس۔ مشموم: کستوری، مشک، نافہ آہو۔

شمت: ا۔ شَمِتَ - شَمَاتًا و شَمَاتَةً بفلان: کی مصیبت پر خوش ہونا، صفت فاعلی: شَامِت جمع شُمَّات: صفت مفعولی: مشموتٌ به۔ شَمَّتَ العاطسَ و شَمَّتَ عليه: چھینک لینے والے کو يَرْحَمُكَ اللّٰه کہہ کر دعا دینا یا کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ وہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس پر خوش ہو۔ ـــ ہُ: کو ناکام کرنا، محروم کرنا۔ أَشْمَتَ هُ اللّٰهُ بعدوه: اللہ کا کسی کو دشمن کی تکلیف سے خوش کرنا۔ تَشَمَّتَ القومُ: قوم کا بغیر غنیمت ناکام لوٹنا۔ الشَّامِت جمع شُمَّت (فا): مصیبت زدہ پر خوش ہونے والا۔ الشَّامِتَة جمع شوامِت: شامت کا مؤنث۔ کہتے ہیں: بات بليلة الشَّوَامِت: اس نے سخت مصیبت میں رات گزاری۔ بات طوعَ الشوامِت: اس نے اس طرح رات گزاری جیسے وہ گزارتا ہے جو دشمنوں کو خوش کرنے والا ہو۔ الشِّمَات و الشَّمَاتَى: نامراد، ناکام لوگ (اس کا واحد نہیں آتا) کہتے ہیں: رجع القوم شِمَاتًا او شَمَاتَى: لوگ ناکام و نامراد واپس آ گئے۔

۲۔ شَمَّتَ بينهما: دونوں کو جمع کرنا۔

۳۔ الشَّامِتَة: جانور کی ٹانگ۔

○ شَمِتَ - شَمَاتًا و شَمَاتَةً ب: کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، کے افسوسناک حادثہ پر فخر و ناز سے دیکھنا۔ شَمَّتَ ہ: کو مایوس کرنا۔ أَشْمَتَ ہ ب: کو دوسرے کے افسوسناک حادثات پر کینہ پرور لطف اندوز ہونے کا باعث بننا۔ شَمَات: کینہ پرور لطف اندوزی۔ شماتة: کینہ جو مسرت، بد باطنی کا کینہ۔ شامت جمع شُمَّات جمع شوامت (مونث): دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے والا، کینہ پرور۔

شمج: ا۔ شَمَجَ - شَمْجًا الثوبَ: کپڑے پر دور دور ٹانکے لگانا۔ ـــ ہُ عن كذا: کو سے ہٹانا، الگ کرنا۔

۲۔ شَمَجَ - شَمْجًا الشيءَ: کو ملانا۔

۳۔ شَمَجَ - شَمْجًا فلانًا: کو جلدی کرانا۔ ناقةٌ شَمَجَى: تیز رفتار اونٹنی۔

۴۔ الشَّمَاج: انگور کا بقیہ جو کھانے کے بعد پھینک دیا گیا ہو۔

شَمْجَرَ الرجلُ: خوف زدہ کی طرح دوڑنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شمح: الشَّمْحَط و الشِّمحاط و الشُّمْحُوط: بہت لمبا۔

شمخ: ۱۔ شَمَخَ ـ شَمْخًا و شُمُوخًا الجبلُ: پہاڑ کا بلند ہونا۔ صفت: شَامِخٌ جمع شُمَّخ م شَامِخَة جمع شَوامِخ و شَامِخات۔ ـ و شَمَخَ انفهُ بأنفِهِ: تکبر وفخر سے ناک چڑھانا۔ صفت: شَمَّاخ۔ تَشَمَّخَ بانفه: تکبر کرنا۔ تَشَامَخَ: بلند ہونا، تکبر کرنا۔ الشَّامِخ (فا): نسبٌ شَامِخٌ: شریف نسب۔ رجلٌ شَامِخٌ: بہت متکبر شخص۔ الشَّمَّاخ: شامخ کا اسم مبالغہ۔ جبلٌ شَمَّاخٌ: بہت بلند پہاڑ۔

۲۔ الشِّمخ: درخت کی شاخ، ٹہنی، چھوٹا درخت (عام بول چال)۔ مفازةٌ شَمُوخ و شَمَخٌ: دور تک پھیلا ہوا بیابان۔

۳۔ شَمْخَرَ شَمْخَرَةً: تکبر کرنا۔ اِشْمَخَرَّ اشمِخرارًا الشيءُ: لمبا ہونا۔ ـ الجبلُ: پہاڑ کا بلند ہونا۔ الشُّمَّخْر و الشِّمَّخْر: متکبر شخص، بلند نظر، بڑا اونٹ یا شخص۔

○ شَمَخَ ـ شَمْخًا و شُمُوخًا: بلند ہونا، اونچا ہونا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا (پہاڑ عمارت وغیرہ)، بہت اونچا ہونا۔ ـ علي: کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، پر ناک چڑھانا ـ انفُهُ او بانفِهِ: خود پسند، مغرور، متکبر ہونا۔ تَشَامَخَ: اونچا ہونا، بلند ہونا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا (پہاڑ عمارت کا) مغرور و متکبر ہونا، شیخی بگھارنا۔ تَشَامُخ: مغرور، تکبر، نخوت۔ شَامِخ جمع شُمَّخ و شَوامِخ: اونچا، بلند، بلند و بالا، غرور، متکبر، نخوت پسند۔ شامخ الانف: مغرور، متکبر، نخوت پسند، نک چڑھا۔ متشامخ: اونچا، بلند، مغرور، متکبر، نخوت پسند، بہت اونچا۔ مُشْمَخِرّ: بلند (عمارت وغیرہ)۔

شمذ: الشِّمَذْر و الشِّمِذْر و الشِّمْذار: تیز رفتاری۔ الشِّمِذارة و الشِّمَيْذَر: چست نوجوان۔

شمر: ۱۔ شَمَرَ ـ شَمْرًا: تیز چلنا، گزرنا، تکبر سے چلنا۔ شَمَّرَ تَشْمِيرًا: تیز چلنا، تیزی سے گزر جانا۔ ـ هُ: کو تیز چلانا۔ ـ السفينةَ او الصقرَ: کشتی یا شکرے کو چھوڑنا۔ ـ ت الحربُ و شَمَّرت عن سافيها: لڑائی کا تیز ہونا، شدت اختیار کرنا۔ ـ للامر: کسی کا کام کا ارادہ کرنا اور اس کے لئے تیار ہونا۔ ـ في الامر: کام میں چستی کرنا۔ ـ الي المكان: کسی جگہ کا قصد کرنا۔ أَشْمَرَهُ: کو جلدی کرانا۔ تَشَمَّرَ: تیزی سے گزر جانا، تکبر سے گزرنا۔ ـ للامر: کسی کام کا ارادہ کرنا، کام کے لئے تیار ہونا۔ اِنْشَمَرَ: تیزی سے یا تکبر سے گزرنا۔ ـ للامر: کام کا ارادہ کرنا، کام کے لئے تیار ہونا۔ الشِّمْر: تجربہ کار، ماہر، دانا، بینا۔ شرٌّ شِمْرٌ: سخت مصیبت۔ الشِّمِّير و الشَّمَّرِيّ و الشِّمِّرِيّ و الشِّمِّرِي: محنتی، کاموں کا کر گزرنے والا، تجربہ کار۔ ـ من الابل: تیز رفتار اونٹ۔ المُشَمِّر (فا): محنتی، کاموں کا کر گزرنے والا، تجربہ کار۔

۲۔ شَمَرَ ـ شَمْرًا النخلَ: درخت خرما سے کھجوریں کاٹنا۔ شَمَّر تَشْمِيرًا الشيءَ: چیز کو سکیڑنا۔ ـ الثوبَ عن ساقيه: کپڑے کو پنڈلیوں سے اٹھانا۔ أَشْمَرَهُ بالسيف: کو تلوار سے لپیٹنا کرنا۔ ناقةٌ او شاةٌ شامِرٌ و شامِرَةٌ جمع شوامِر: اونٹ یا بکری جس کے تھن پیٹ سے چپکے ہوئے ہوں۔ لِثةٌ شامِرَةٌ: دانت کی جڑ سے چپٹا ہوا مسوڑھا۔

۳۔ شَمَرَ ـ شَمْرًا ت نفسُهُ من الشيء: دل کا کسی چیز سے نفرت کرنا (سریانی عام بول چال)۔

۴۔ الشِّمْر: فیاض، سخی۔ الشُّمْرَة و الشَّمار (ن): ایک قسم کا خوشبودار پودا۔ الشُّمُّور: الماس۔

۵۔ شَمْرَجَ الثوبَ: کپڑے کی اچھی سلائی نہ کرنا اور دور دور ٹانکے بھرنا۔ الشُّمْرُج: باریک بناوٹ کا کپڑا۔ ثوبٌ مُشَمْرَج: باریک بناوٹ کا کپڑا۔

۶۔ شَمْرَجَ في الكلام: کلام میں گڑبڑ کرنا، کلام کو خلط ملط کرنا۔ الشِّمْراج جمع شَمارِيج: جھوٹ میں خلط ملط کلام۔ الشماريج: باطل اور جھوٹی باتیں۔

۷۔ شَمْرَخَ العِذقَ: کھجور یا انگور کے گچھوں کو کاٹنا۔ الشِّمراخ جمع شَمارِيخ: کھجور یا انگور کا خوشہ، پہاڑ کی چوٹی، بادل کا بالائی حصہ۔ الشُّمْرُوخ جمع شماريخ: کھجور یا انگور کا خوشہ، موٹی شاخ پر چھوٹی باریک اُگنے والی ٹہنی۔

۸۔ الشُّمارِق و الشماريق و المُشَمْرَق من الثياب: قطع کیا ہوا کپڑا۔

○ شَمَّرَ هُ: (کپڑا) اٹھانا، چڑھانا، لپیٹنا۔ ـ: تیار ہونا۔ شَمَّر للامر: کام کا آغاز کرنا۔ ـ عن ساعِدِه: آستین چڑھا کر بازو کا اوپر کا حصہ ننگا کرنا، کام کرنے لگنا۔ ـ عن ساعد الجد: اپنے قوی مجتمع کرنا۔ تَشَمَّرَ: پھرتی سے کام کرنے لگانا۔ مُشَمِّر: (کسی کام میں) سرگرمی سے منہمک۔ شُمْرُوخ جمع شَمارِيخ: کھجور کے گچھے سے بھرا ہوا ڈنٹھل، شاخ جس کے پتے اتار دیئے گئے ہوں، چھوٹی ٹہنی، بم کی بتی۔

شمز: شَمَزَ ـ شَمْزًا ت نفسُهُ منه: کو مکروہ سمجھ کر نفرت کرنا۔ تَشَمَّزَ الوجهُ: چہرے کا سکڑنا۔ اِشْمَأَزَّ اِشْمِئزازًا: (جس کا اسم شُمْأَزِيزَة ہے): خوف زدہ ہونا، کراہت سے رونگٹے کھڑے ہونا۔ ـ الشيءَ: کو مکروہ جاننا۔ ـ منه: سے منقبض ہونا اور کراہت کی وجہ سے نفرت کرنا۔

○ اِشْمَأَزَّ: سکڑنا۔ ـ من: سے دبکنا (خوف وغیرہ سے) پیچھے ہٹنا، پر کانپنا، رونگٹے کھڑے ہونا، سے نفرت کرنا، کراہت کرنا، گھن کھانا، سے سخت نفرت کرنا، کے لئے کراہت محسوس کرنا، سے گھن آنا۔ اِشْمِئزاز: کپکپی، تھرتھری، لرزہ، کراہت، نفرت، بیزاری، سخت نفرت۔ مُشْمَئِز من: سے متنفر، سے گھن کھائے ہوئے، سے برگشتہ۔

شمس: ۱۔ شَمَسَ ـ شُمُوسًا و شِمَاسًا: باز رہنا، انکار کرنا۔ ـ له: سے دشمنی ظاہر کرنا، برائی کا ارادہ کرنا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کا سرکش ہونا، مچلنا، نہ کسی کو سوار ہونے دینا اور نہ زین کسنے دینا۔ صفت: شَمُوس جمع شُمُس و شُمْس و شَامِس جمع شَوامِس: عام لوگ کہتے ہیں: شَمَسَ فلانًا عند الناس: اس نے لوگوں میں فلاں پر تہمت لگائی۔ صفت مفعولی: مَشْمُوس: (جس پر تہمت لگائی گئی ہو)۔ شَمِسَ ـ شَمَسًا لي: (میرے لئے) کسی شخص کی عداوت کا ظاہر ہونا اور اس عداوت کو چھپا نہ سکنا۔ شَمَّسَهُ: کو نفرت دلانا۔ شامَسَهُ: سے دشمنی کرنا، سے معاندت کرنا۔ تَشَمَّسَ علينا: (ہم سے) بخل کرنا۔ الشَّمُوس: شراب۔ ـ جمع شُمُس و شُمْس: سخت دشمن اور مخالف۔ الشَّامِس من الخيل جمع شَوامِس: سرکش گھوڑا، مچلتا گھوڑا۔ ـ من الرجال: سخت مزاج۔ المُتَشَمِّس (فا): بہت قوی، بخیل۔

۲۔ شَمَسَ ـ شُمُسًا و شَمِسَ ـ شَمَسًا و أَشْمَسَ اليومُ: دن کا دھوپ والا ہونا۔ صفت: شَامِس و مُشْمِس۔ شَمَّسَ الكافِرُ: کافر کا سورج کی پرستش کرنا۔ ـ الشيءَ: چیز کو دھوپ میں پھیلانا۔ تَشَمَّسَ: دھوپ میں بیٹھنا، کھڑا ہونا۔ الشَّمْس (تصغير شُمَيْسَة) جمع شُمُوس (فلك): سورج۔ کہتے ہیں: بسط الشيءَ في الشمس: اس نے چیز کو دھوپ والی جگہ میں پھیلایا۔ دخلت الشمسُ الي البيت: سورج کی کرنیں گھر میں پہنچیں۔ ـ عند الصوفية: نور یعنی حق تعالیٰ ـ من الايام: دھوپ والا دن۔ الشَّمِس و الشَّمُوس من الايام: دھوپ والا دن، جس میں بادل چھائے ہوئے نہ ہوں۔ الشَّامِس (فا) من الايام جمع شَوامِس:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دھوپ والا دن۔ الشَّمْسِيَّة: چھتری۔ فصیح تر ظُلَّة یا مِظَلَّة: دھوپ کی چھتری کے لئے و عالة بارش کی چھتری کے لئے ہے۔

۳۔ شَمَّسَ فلانٌ: شمّاس ہونا۔ الشَّمّاس عیسائیت میں مذہبی خدمات سرانجام دینے والے کے ایک عہدہ کا نام ہے۔ الشَّمّاس جمع شَمَامِسَة: پادری سے کم درجہ کے عہدہ کا نام۔ یہ سریانی لفظ ہے اور اس کا معنی خادم ہے۔ الشِّمَّاسِيَة: شمّاس کا وظیفہ۔

۴۔ الشَّمْس: ایک قسم کی کنگھی، ایک قسم کا ہار۔ الشَّمْسِيَّة (مو): ہرنا، ہرنالٹو۔

☆ شَمَسَ ـُ شُمُوسًا و شِمَاسًا: گھوڑے کا سرکش، اڑیل، آرام سے کھڑا نہ ہونے والا ہونا۔ ــــ ـَ و شَمِسَ ـَ شَمْسًا: دن کا دھوپ والا ہونا۔ شَمَّسَ ہ: کو دھوپ میں رکھنا۔ شَمَّسَ: (مسیحیت میں) ڈیکن deacon کے فرائض سرانجام دینا۔ أَشْمَسَ: (دن کا) دھوپ والا ہونا۔ تَشَمَّسَ: دھوپ میں بیٹھنا، دھوپ کھانا، دھوپ میں لیٹنا۔ سَمْتُ الشَّمْس: گرہن سے متعلق۔ شروق الشمس: طلوع آفتاب۔ ضَرْبَةُ الشَّمْس: لُو کا اثر sun stroke۔ گرمی سے نڈھال ہونا۔ عَبَّاد الشَّمْس: سورج مکھی۔ غروبُ الشَّمْس: غروب آفتاب۔ شَمْسِي: سورج کا، آفتابی، شمسی۔ الحروف الشمسيه: شمسی حروف۔ صورةٌ شمسيّة: فوٹو، فوٹوگراف۔ التصوير الشمسي: فوٹوگرافی۔ شَمْسِيَّة جمع شَمْسِيَات: چھاتہ چھتری، پردہ، سکرین۔ شمسية الشباك: کھڑکی کا پردہ۔ شمسية الطيار: پیراشوٹ parachute۔ شَمُوس جمع شُمُس: سرکش، اڑیل، آرام سے نہ کھڑا ہونے والا (گھوڑا)۔ شَامِس: دھوپ والا (دن) مُشْمِس: دھوپ والا (دن)۔

شمص: ا۔ شَمَصَ ـِ شَمْصًا و شَمَّصَ الدوابَّ: جانور کو بہت تیز ہانکنا۔ ــــ ہ بالسوط: کو کوڑے مارنا۔ ــــ الرجُلَ: کسی کو اذیت دے کر غضبناک کرنا۔ ــــ ہ الشيءَ: کو کسی بات کا بے قرار کرنا۔ شَمِصَ ـَ شَمَصًا: جلدی جلدی بولنا۔ أَشْمَصَ و اِنْشَمَصَ: خوفزدہ ہونا۔ تَشَمَّصَ: سکڑنا۔ الشِّماص: نکل جانا، بچ جانا۔ الشُّماص: جلدی، عجلت۔ الشَّمُوص من الخيل: سرکش گھوڑا۔

☆ شَمْشَمَ ہ: کی ناس لینا۔

شمط: ا۔ شَمَطَ ـُ شَمْطًا الشيءَ: کو ملانا۔ شَمِطَ ـَ شَمَطًا و أَشْمَطَ اشْمِطَاطًا و اشْمَاطَّ اشْمِيطَاطًا و اشْمَأَطَّ اشْمِئْطَاطًا: کے سر کا سیاہ و سفید بالوں والا ہونا۔ صفت: أَشْمَط جمع شُمْط و شُمْطان م شَمْطاء جمع شُمْط۔ شَمَّطَ ہ بہ: کو سے ملانا۔ أَشْمَطَ الرجُلُ: خاکستری بالوں والا ہونا، سیاہی مائل سفید بالوں والا ہونا۔ ــــ ہ بہ: کو سے ملانا۔ الشَّمَط و الشُّمْط و الشِّمْط جمع شِماط و أَشْماط: مسالحہ۔ الشَّمِيطُ: مخلوط، صبح۔ الشَّماطاتُ في الراس: سر کے سفید بال۔ الشُّمُوط من الخيطان: دھاگے کا گولا یا گٹا۔

۲۔ شَمَطَ ـُ شَمْطًا الشجرُ: درخت کے پتے جھڑنا۔ عام بول چال میں کہتے ہیں: شمط الشيءَ: اس نے چیز جھپٹالی۔ و شمط الغرسةَ: اس نے پودا اکھیڑ دیا۔ شمط أُذنه: اس نے اس کا کان کھینچا (سریانی)۔ الشِّمطاط جمع شَماطِيط: جماعت، گروہ، گلہ۔ کہتے ہیں: جاؤوا شماطيط: وہ علیحدہ علیحدہ آئے، الگ الگ آئے۔ ثوبٌ شِمطاط: قطع کیا ہوا کپڑا۔ الشُّمْطُوط و الشِّمْطِيط: گروہ، جماعت۔

۳۔ شَمَطَ ـِ شَمْطًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ ــــ النباتُ: پودے کا اونچا اٹھنا (عام بول چال)۔ الشَّمُّوط: جوار کا بھٹا (عام بول چال)۔ الشُّمْطُوطُ: طویل دراز، لمبا۔

☆ شَمِطَ ـَ شَمَطًا: خاکستری بالوں والا ہونا، سیاہی مائل سفید بالوں والا ہونا، کے بالوں کا خاکستری ہو جانا۔ أشمط م شَمْطاء جمع شُمْط و شُمْطان: خاکستری بالوں والا، سیاہی مائل سفید بالوں والا۔

شمظ: شَمَظَ ـُ شَمْظًا ہ: کو منع کرنا، روکنا۔ ــــ سے نرم گرم گفتگو کرنا، سختی کئے بغیر اکسانا اور متحرک کرنا۔ ــــ الشيءَ: کو خلط ملط کرنا، ملانا، گڈمڈ کرنا، کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔

شمع: ا۔ شَمَعَ ـَ شَمْعًا و شُمُوعًا و شُمُوعًا و مَشْمَعًا: کھیلنا، مذاق کرنا۔ صفت: شَمُوع۔ کہتے ہیں: أَشامِعٌ أنت أم جاد: یعنی تم مذاق کر رہے ہو یا سنجیدگی میں کہہ رہے ہو۔ شَمَّعَ الرجُلَ: کو کھیل کود یا مذاق پر آمادہ کرنا، اکسانا۔ الشِّماع و الشِّماعة: ہنسی خوشی، مذاق۔ الشَّمُوعُ من النساء: خوش طبع مذاق کرنے والی عورت۔

۲۔ شَمَعَ ـَ شُمُوعًا الشيءُ: متفرق ہونا۔ أَشْمَعَ السراجُ: چراغ کا روشن ہونا۔

۳۔ شَمَّعَ الشيءَ: کسی چیز کو پگھلے ہوئے موم میں ڈبونا، یا کسی چیز پر پگھلا ہوا موم ڈالنا۔ الشَّمَع و الشَّمْع (واحد شَمَعَة و شَمْعَة، جمع شَمَعات: موم (شہد یا چربی وغیرہ کا) الشَّمّاع: موم بتی بنانے والا یا بیچنے والا۔ الشَّمْعَدان جمع شَمَاعِد و شَمْعَدانات: چراغدان لفظ دان فارسی لفظ ہے۔ عربی میں شمعدان کے ہم معنی لفظ مَنارة ہے۔ المَشْمَعَة: موم بتی بنانے یا بیچنے کی جگہ۔ المُشَمَّع: پن روک، غیر نفوذ پذیر لباس یا ربڑ کا لباس، برساتی۔

۴۔ اِشْمَعَطَّ اشْمِعْطَاطًا: غصہ سے بھر جانا۔ ــــ القومُ في الطلب: تلاش میں جلدی کرنا اور پھیل جانا۔ ــــ ت الإبلُ او الخيلُ: اونٹوں یا گھوڑوں کا بکھر جانا۔

۵۔ شَمْعَل و تَشَمْعَل القومُ: متفرق ہونا، پھیل جانا۔ اِشْمَعَلَّ القومُ: متفرق ہونا اور پھیل جانا۔ ــــ ت الحربُ: لڑائی کا بھڑکنا۔ ــــ ت الغارةُ: لوٹ پھیل جانا۔ ــــ ت الابلُ: اونٹوں کا خوشی میں آکر ادھر ادھر پھیل جانا۔ ــــ الرجُلُ: روانگی میں جلدی کرنا۔

☆ شَمَّعَ ہ: کو موم سے رگڑنا یا ملنا۔ ــــ الفَتْلَةَ: کھسک جانا، فرار ہو جانا، بھاگ جانا۔ شَمْع و شَمَع اسم جنس واحد شمعة جمع شُمُوع: موم، موم بتی۔ الشمع الاحمر: (مہر لگانے کی) لاکھ (sealing wax)۔ شمعُ الختم: مہر لگانے کی لاکھ۔ شمع لتلميع الارضية: فلور ویکس flour wax۔ شَمْعَة و شَمَعَة: موم بتی۔ شمعة الشرارة: سپارک پلگ (spark plug): انجن میں گیس بھڑکانے والا پرزہ، آتش زن۔ شمعی: مومی۔ شَمَّاع: موم ساز یا فروش۔ شَمّاعة: ہیٹ یا کپڑوں کا ریک، کپڑے ٹانگنے کی کھونٹی۔ مُشَمَّع وہ کپڑا جس میں پانی سرایت نہ کرتا ہو۔ مُشَمَّعات: پن روک سامان، کتان کا کپڑا جو غیر نفوذ پذیر ہو۔ پن روک کور یا کوٹ، آئل کلاتھ، مومی کپڑا، کرمچ (linoleum)۔ مُشَمَّع بيوميں للسقف: کولتار کا کاغذ۔ معطفٌ مُشَمَّع: برساتی۔ شَمْعَدان جمع شمعدانات و شَماعِد: شمعدان condle stick۔

شمق: ا۔ شَمِقَ ـَ شَمَقًا: پاگل کی طرح خوش ہونا۔ تَشَمَّقَ: خوش ہونا۔ الشَّماقة: خوشی، جنون۔ الشِّمِق و الشَّمَقْمَق: شادمان۔

۲۔ تَشَمَّقَ الشيءُ: گھس جانا۔

۳۔ الشِّمِق و الشَّمَقْمَق: لمبا، طویل۔

شمل: ا۔ شَمَلَ ـُ شُمُولاً ت الريحُ: شمالی ہوا چلنا۔ ــــ شَمْلاً الشيءَ: کو شمالی ہوا کے سامنے کرنا۔ ــــ بہ: کو بائیں جانب لینا۔ شَمِلَ ـَ شَمَلاً

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

و شَمِلَ شَمْلاً القومُ: شمالی ہوا سے تکلیف پانا۔ شَمَّلَ الرجُلُ: بائیں ہاتھ سے پکڑنا۔ أشْمَلَ القومُ: بادشمالی میں داخل ہونا۔ ـــت الريحُ: شمالی ہوا چلنا۔ الشَمْلُ (مص): شمالی ہوا۔ الشَمَل (مص) جمع أشْمَال: شمالی ہوا۔ الشَمَال و الشَمْأَل و الشَأْمَلّ و الشَمِيل و الشَمُول و الشَوْمَل و الشَيْمَل جمع شمالات: شمالی ہوا۔ کہتے ہیں: هبت الشَمَالُ: شمالی ہوا چلی۔ الشِمال جمع شَمَالات: بادشمالی۔ ـــ (مونث) جمع أشْمُل و شَمُل و شِمْال (بلفظ الواحد) و شَمائِل: بایاں۔ (کہتے ہیں: فلانٌ عندی بالشِمَال: وہ میرے نزدیک گھٹیا درجے کا ہے۔ هو عندی باليمين: وہ میرے نزدیک اچھے رتبہ والا ہے) بدبختی۔ طيرُ شِمَالٍ: بدشگونی کا پرندہ۔ الشيمال: بایاں، المَشْمُول (مذ م): جس کو بادشمالی کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو۔ ليلة مشمُولة: سردرات۔

۲۔ شَمَلَ ـُ شَمْلاً الشاةَ: بکری کے تھنوں پر تھیلا چڑھانا۔ ـــ ـَ شَمْلاً و شَمَلاً و شُمُولاً الامرُ القومَ: معاملہ کا سب کو شامل ہونا، عام ہونا۔ کہتے ہیں: شَمَلَ القومَ خيراً أو شرًّا: بھلائی یا برائی کو عام کرنا۔ شَمِلَ ـ شَمْلاً و شَمَلاً و شُمُولاً الامرُ القومَ: معاملہ کا سب کو شامل کرنا۔ ـــ شَمْلاً و شُمُولاً ہٗ: کو چادر سے ڈھکنا۔ شَمَّلَ تَشْمِيلاً ہٗ: کو چادر میں لپٹنا۔ أَشْمَلَ الشاةَ: بکری کے تھنوں پر چادر چڑھانا۔ ـــ القومَ خيراً أو شرًّا: بھلائی یا برائی کو عام کرنا۔ ـــ الرجُلُ: بڑی چادر والا ہونا۔ ـــ ہٗ: کو چادر دینا۔ تَشَمَّلَ تَشَمُّلاً بالشَمْلَة: چادر میں لپٹنا۔ إشْتَمَلَ بالثوب: چادر میں پورا لپٹنا۔ ـــ الامرُ عليه: معاملہ کا کسی کو گھیرنا۔ ـــ على فلان: کو بچانا۔ الشَمْلُ (ضد): مجتمع امر، متفرق امر۔ کہتے ہیں: فَرَّقَ اللّٰه شَمْلَهُمْ: اللہ تعالیٰ انکی جمعیت کو تتر بتر کردے۔ جمع اللّٰه شَمْلَهُم: اللہ تعالیٰ ان کے بکھرے ہوئے کاموں کو اکٹھا کردے۔ الشَمَل جمع أشمال: پناہ۔ الشَمِل: چادر میں لپٹنا ہوا۔ الشِمال: بکری کے تھنوں پر چڑھانے کا تھیلا، بکری کے تھن کا داغ، کھیتی کاٹنے والے کے ہاتھ میں کھیتی کا مٹھا، عام طور سے شَمِيلَة کہتے ہیں۔ الشَمْلَة جمع شَمَلات: چھوٹی چادر جو پورے جسم ڈھانک لے۔ اُمُّ شَمْلَة: دنیا، شراب، سورج۔ الشِمْلَة: لپٹنے کی ہیئت کہتے ہیں: هو حسنُ الشِمْلَة: وہ چادر میں لپٹے اچھا لگتا ہے۔ الشمال: جمع شَمَائِل: وہ جگہ جہاں شکاری شکار سے چھپتا ہے۔ الشَمُول: شراب یا سرد شراب۔ المِشْمَل: چھوٹی تلوار، اس کا اطلاق خنجر پر ہوتا ہے۔ ـــ و المِشْمَلَة و المُشمَال: بڑی چادر جس میں پورا طرح لپٹا جا سکے، کمبل۔ المَشْمُولة: شراب، سرد شراب۔

۳۔ شَمَلَ ـُ شَمْلاً النخلَةَ: پکی کھجوریں چن لینا۔ أَشْمَلَ النخلَةَ: پکی پکی کھجوریں چننا۔ الشَمْل و الشِمل: کھجوروں کا گچھا۔ الشَمَل جمع أشمال: تھوڑی بارش یا کھجور یا تھوڑے لوگ وغیرہ۔ کہتے ہیں: اصابنا شَمَلٌ من المطر: ہم پر تھوڑی بارش ہوئی۔ ما على النخلة الاشَمَلٌ: کھجور کے درخت پر تھوڑا پھل بچا ہے۔ الشِمِلّ: تھوڑی کھجوروں کا گچھا۔

۴۔ شَمَّلَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ اِشْتَمَلَ: جلدی کرنا۔ ـــ فى الحاجة: آمادہ ہونا، ارادہ کرنا۔ اِنْشَمَلَ: جلدی کرنا۔ کہتے ہیں: اِنشمل في حاجته: اس نے اپنی حاجت میں جلدی کی۔ ناقةٌ شِمْالٌ: تیز رفتار اونٹنی۔ ناقةٌ شِمِلَّة: تیز رفتار اونٹنی۔

۵۔ الشِمَال جمع شَمَائِل: طبیعت، عادت، سیرت۔ کہتے ہیں: ليس من شِمَالى أن أعمل بشمالى: میری عادت نہیں کہ بائیں ہاتھ سے کام کروں۔ الشَمِيلَة جمع شمائل: طبیعت۔ المَشْمُول: پسندیدہ اخلاق والا۔ اخلاقٌ مَشْمُولَة: برے اخلاق۔

٦۔ شَمْلَلَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ جملٌ أو ناقةٌ شِمْلال او شِمْلِيل: تیز رفتار اونٹ یا اونٹنی۔

۷۔ شَمْلَلَ النخلَةَ: درخت سے پکی پکی کھجوریں چننا۔ الشُمْلُول جمع شَمالِيل: تھوڑی پکی کھجوریں، یا تھوڑی بارش یا تھوڑے لوگ۔ کہتے ہیں: ما على النخلة لا شماليل: کھجور کے درخت پر تھوڑا پھل رہ گیا ہے۔ الشَمَالِيل: شاخیں جن کی چوٹیاں پراگندہ ہوں۔ کہتے ہیں: ذهبوا شماليل: وہ متفرق ہو کر چلے گئے۔ ثوبٌ شَمالِيل: پھٹا پرانا کپڑا۔

۸۔ الشِمْلال: بایاں۔

۹۔ امراةٌ شَمْلَق: بدخلق عورت۔

(ت) شَمِلَ ـ شَمَلاً و شَمَلَ ـُ شَمْلاً و شُمُولاً ہ: پر مشتمل ہونا، کا حاصل ہونا، کو شامل ہونا، محیط ہونا، کو شامل کرنا، داخل کرنا، کو ملفوف کرنا، لف کرنا، منسلک کرنا: کا مفہوم ہونا، کی طرف دلالت کرنا، کا نتیجہ ہونا، سے نتیجہ نکلنا، کا پہلو نکلنا۔ ـــ ہ، ہ: کو قابو میں لانا، کو نڈھال کرنا، میں سرایت کرنا، میں رچ بس جانا، میں پھیل جانا (احساسات کا، جذبات کا)۔ شَمِلَ و شَمَلَ: کا رواج ہونا، عام ہونا، ہمہ گیر ہونا، بلا استثناء ہونا، عالمگیر ہونا۔ شمله بعنايته: کا خیال رکھنا، کی بہبودی یا برتری کے لئے کوشاں ہونا، کو زیر حمایت لینا۔ تَشَمَّلَ بالشَمْلَة: اپنے آپ کو چادر، لبادہ، چوغہ میں لپیٹنا۔ إشْتَمَلَ بمعنى تَشَمَّلَ: اشتمل ہ ب: اپنے آپ کو کسی چیز میں لپیٹنا۔ ـــ على: پر مشتمل ہونا، کو شامل کرنا، کو ملفوف کرنا، لف کرنا، منسلک کرنا، کو لپیٹنا، کا مفہوم ہونا، کی طرف دلالت کرنا، کا نتیجہ ہونا، سے نتیجہ نکلنا، کا پہلو نکلنا۔ شَمَّلَ: متحد کرنا، جمع کرنا، ارتکاز، ایک مرکز پر جمع ہونا، اتحاد، وحدت، اتفاق، موافقت، ہم آہنگی۔ جمع الشمل: بچھڑے ہوؤں کا اجتماع، دوبارہ اتحاد۔ اجتماع الشمل: بچھڑے ہوؤں کا اجتماع، اتحاد، وحدت، اتفاق۔ مَزَّقَ شملَهُ: کسی چیز کو تباہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، حصے بخرے کرنا، تقسیم کرنا، توڑنا، پرزے پرزے کرنا۔ شَمْلَة جمع شَمَلات: لبادہ، چوغہ، پگڑی۔ اُمُّ شَمْلَة: دنیا، جہاں، دنیوی خوشیاں، شادمانیاں۔ شَمائِل: خوبیاں، خصائل کردار، سیرت، طبیعت، مزاج، خو، افتادِ طبع۔ اشْمَل: زیادہ قابل فہم، زیادہ جامع، زیادہ عام، زیادہ ہمہ گیر۔ شَامِل: جامع، مکمل، عام، ہمہ گیر، عالم گیر، بلا استثناء، کامل، کلی، مجموعی۔ مشمول: شامل، مشتمل، محیط۔ مَشْمُولٌ برعايته: کی سرپرستی یا حمایت سے متمتع، سرفراز۔ مشمولات الوظيفة: جبلی فرائض منصبی۔ مشتمِل على: پر مشتمل۔ مُشْتَمَل: بنگلہ (کرایہ کیلئے)۔ مُشْتَمَلات: مشمولات، منسلک اشیاء۔ شَمَال: شمال، اتر، شمالی ہوا۔ شِمال: بایاں ہاتھ، بایاں پہلو، بایاں۔ الشمال: بایاں بازو (سیاست)۔ شِمالَ: کے شمال میں۔ شِمالاً: بائیں جانب، شمال کی طرف، شمال غربی: شمال مغرب، کوكب الشِمال: قطبی ستارہ۔ شمال شرقی: شمال مشرق۔ اليد الشمال: بایاں ہاتھ۔ شِمَالى و شَمَالى: شمالی، شمال کا، بائیں جانب واقع۔ الشماليُّون: بائیں بازو کی جماعتیں: الشَفَق الشمالى: شمالی روشنیاں۔ شُمْلُول جمع شَمالِيل: تھوڑی مقدار، تھوڑی رقم۔ شَمْلُول: چست، پھرتیلا، تیز، صاف واضح، گہرا، زندہ دل، بشاش، شگفتہ مزاج، پرلطف، زندہ دلانہ۔

شمن: الشَمْنْدر و الشَوْنَدر (ن): چقندر۔

شمہ: شَمْهَذَ السِكِّينَ: چھری کو تیز کرنا۔ ـــ الحديدَ: لوہے کو پتلا کرنا۔ الشَمْهَذُ: تیز چیز۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

شما: شَمَا ـ شُمُوًّا الرجُلُ: آدمی کی شان بلند ہونا۔
الشَّمَا: موم۔
شنّ: شَنَّ ـ شَنًّا الماءَ علی الشراب: شراب پر پانی
چھڑکنا۔ شَنَّ و أَشَنَّ الغارةَ علیهم: پر چاروں
طرف سے لوٹ ڈالنا۔ الشَّنِین: پانی کا روغنی سیال
مادہ، دودھ جس پر پانی ڈالا گیا ہو۔ الشَّنَّان: ٹھنڈا
پانی، پانی برسانے والا بادل۔ ماءٌ شُنَان: متفرق
پانی۔ الشُّنَانَة: مشک یا درخت سے ٹپکنے والا پانی۔
۲۔ شَنَّ ـ شَنًّا و شَنَنَ و أَشَنَّ ت القربةُ: مشک کا
... اور خشک ہونا۔ تَشَنَّنَ و تَشَانَّ الجلدُ: کھال
کا سوکھ جانا اور سکڑ جانا ــ جلدُ الانسان: انسان
کی جلد پر بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑنا۔ و اِشْتَنَّ
السقاءُ: مشک پرانی ہونا۔ الشَّنُّ (مص) جمع
شِنَان و أَشْنَان و الشَّنَّة: چھوٹی پرانی مشک۔ کہتے
ہیں: قربةٌ أَشْنَانٌ: پرانی مشک۔ قوسٌ شَنَّةٌ: قدیم
کمان۔ الشَّنُون (ضد): موٹا، دبلا، بھوکا۔
۳۔ تَشَانَّ الشَّیْئَان: دو چیزوں کا باہم ملنا۔
۴۔ الأُشْنَان: ہمزہ کے باب میں دیکھیے۔
۵۔ الشَّنْشَنَة: کاغذ یا نئے لباس کی سرسراہٹ۔ اَلشِّنْشِنَة
جمع شَنَاشِن: عادت، طبیعت، گوشت کا ٹکڑا۔
○ شَنَّ ـ شَنًّا غارةً: اچانک حملہ کرنا، حملہ کرنا، چڑھائی
کرنا۔ ــ علی: پر حملہ کرنا، کے خلاف حملہ شروع
کرنا۔ أَشَنَّ بمعنی شَنَّ۔ شَنّ: پانی کی مشک جمع
شُنُون۔ مِشَنَّة: بے دستہ کی ٹوکری۔
شنأ: ا۔ شَنَأَ ـ و شَنِئَ ـ شَنْأً و شِنْأً و شُنْأً و
شَنْأَةً و شَنَآنًا و شَنْآنًا و مَشْنَأً و مَشْنَأَةً و مَشْنُؤَةً
الرجُلَ: سے بغض رکھنا، دشمنی کرنا، بدخلقی کرنا۔ صفت
فاعلی: شَانِئ جمع شُنَّاء م شَانِئَة جمع شَوَانِئ:
صفت مفعولی: مَشْنُوءٌ۔ شَنِیْءٌ: باوجود خوبرو ہونے
کے ناپسندیدہ ہونا۔ تَشَانَأَ القومُ: ایک دوسرے
سے بغض و دشمنی رکھنا۔ الشَّنَاءَة: عداوت اور بدخلقی
کے ساتھ بغض۔ الشَّوَانِئُ (الشَّانِئَة کی جمع):
شَوَانِئُ المالِ: فیاضی سے دیا ہوا مال۔ الشَّنْآن م
شَنْآنَة و شَنْآی: بغض رکھنے والا، دشمنی کرنے والا،
برا سمجھنے والا۔ رجُلٌ شَنَائِیَة: بغض و دشمنی رکھنے والا۔
المِشْنَاءُ: وہ شخص جس سے لوگ بغض رکھیں، اکثر ایسی
حرکتیں کرنے والا جن کی وجہ سے لوگ اس سے دشمنی
رکھیں۔ المَشْنَأ: قبیح، بدشکل (مذکر، مونث واحد جمع
سب میں یکساں) لوگوں سے دشمنی رکھنے والا۔
۲۔ شَنِیءَ ـ شَنَأَةً الشیءَ: چیز کو نکالنا ــ حقَّه و
بِحَقِّهِ: کے حق کا اقرار کرکے اسے اس کا حق دینا۔

شنب: ا۔ شَنِبَ ـ شَنَبًا الیومُ: دن کا سرد ہونا۔
صفت: شَانِب و شَنِب: اور اسم الشُّنْبَة۔ ــ
الرجُلُ: سفید خوبصورت دانتوں والا ہونا۔ صفت:
أَشْنَب و شَانِب و شَنِیب و مِشْنَب۔ المَشَانِب:
خوشبودار منہ (جمع)۔
۲۔ شَنَّبَتْ الهوی قلبَهُ: محبت کا کسی کے دل میں گھر کر
جانا۔ الشِّنْبَث و الشُّنَابِث (ح): شیر، موٹا۔
○ شنب جمع أشناب: مونچھ۔ شِنْتِیَان جمع
شَنَاتِین: عورتوں کے پہننے کی ڈھیلی پتلون۔
شنت: ا۔ الشَّنْتَة: چمڑے کا تھیلا، بیگ جس میں
کاغذات وغیرہ رکھے جاتے ہیں (عام بول چال)۔
۲۔ شَنْتَرَ ثوبَهُ: کا کپڑا پھاڑنا۔ الشُّنْتُرَة جمع شَنَاتِر
انگلی (کہتے ہیں: لأضُمَّنَّكَ ضَمَّ الشَّنَاتِر: میں
تمہیں اس طرح گلے لگاؤں گا جیسے انگلیاں ایک دوسرے
سے پیوستہ ہیں) دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔
شنج: شَنِجَ ـ شَنَجًا و أَشْنَجَ و تَشَنَّجَ و انْشَنَجَ
الجلدُ: گرمی یا سردی سے کھال کا سکڑنا، ایسی کھال
کو شَنِج اور ایسی کھال والے کو شَنِج و أَشْنَج کہتے
ہیں۔ شَنَّجَهُ: کو سکیڑنا۔ الشَّنَج (ح): اونٹ۔
التَّشَنُّج: پٹھوں کا سکڑنا، عضلات کا سکڑنا۔
○ شَنِجَ ـ شَنَجًا: سکڑنا، اینٹھن میں مبتلا ہونا۔ تَشَنَّجَ
بمعنی شَنِجَ: (نیز) پھڑکنا۔ تَشَنُّج: سکڑنا، چرمر
ہونا (کھال کا)، پٹھے کا اینٹھن کے ساتھ سکڑنا، پھڑکنا،
جھٹکا، اینٹھن، کھچاوٹ، دورہ، اکڑن، تشنج، تناؤ۔
شنح: شَنَّحَ علیه: کو بھلا برا کہنا۔ الشِّنَّاح و
الشَّنَاحِیّ و الشَّنَاحِیَة م شَنَاحِیَة: لمبا اور موٹا
اونٹ۔
شنخ: ا۔ شَنَّخَ النخلَ: درخت خرما کے کانٹے صاف
کرنا۔ الشِّنَاخ: پہاڑ کی نوک۔
۲۔ الشِّنْخَاب جمع شَنَاخِیب: پہاڑ کی چوٹی۔
الشُّنْخُوب: شانے کا بالائی حصہ، پیٹھ کا منکا۔ ــ
و الشُّنْخُوبَة جمع شَنَاخِیب: پہاڑ کی چوٹی۔
○ شُنْخُوبَة جمع شَنَاخِیب: بڑی چٹان، گھسا ہوا گول
مول پتھر۔ صخرة۔
شند: الشُّنْدُخ: مضبوط، لمبا اور گھٹے ہوئے بدن کا۔ (ح):
شیر، مکان کی تعمیر یا سفر سے واپسی کی خوشی میں پکایا ہوا
کھانا۔
شنر: شَنَّرَ علیه: پر عیب لگانا، الزام لگانا، کی تذلیل کرنا،
کی اصلیت بتانا۔ الشَّنَار: عار، بے عزتی، ذلت،
رسوائی، کھلی بے عزتی، فضیحت۔ الشِّنِّیر و الشِّنِّیرَة:
بدخلق، ... شرارتی اور عیبی

شنز: الشُّونِیز و الشِّینِیز (ن): کلونجی۔
○ شَنْشَنَة: کاغذ کی سرسراہٹ، تڑ تڑ، چٹخنا۔ شِنْشِنَة
جمع شَنَاشِن: طبیعت، مزاج، افتاد طبع، شوق
میلان، عادت، رواج، رسم، دستور، قاعدہ۔
شنص: شَنَصَ ـ و شَنِصَ ـ شُنُوصًا به: سے
چمٹنا، کے ساتھ ہونا۔ فرسٌ شَنَاصٌ و شَنَاصِیّ و
شُنَاصِیّ و شَنَاصِیَة: عمدہ لمبا مضبوط گھوڑا۔
شنط: الشُّنُط: پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے۔ المُشَنَّط:
بھونا ہوا گوشت۔ شواءٌ مُشَنَّط: گوشت جسے زیادہ نہ
بھونا گیا ہو۔
○ شُنَیْطَة: گرہ، گانٹھ، پھندا۔ شَنْطَه جمع شُنَط:
سوٹ کیس، بستہ، تھیلا، سفری بیگ۔ شَنْطَةُ الید:
ہینڈ بیگ۔
شنظ: ا۔ شِنَاظ الجبلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ کہتے ہیں:
امرأةٌ ذات شِنَاظٍ: گٹھی ہوئی موٹی عورت۔
۲۔ الشُّنْظُب: دراز قامت خوبصورت۔
۳۔ شَنْظَرَ بهم: کو گالی دینا۔ الشِّنْظِیر جمع شَنَاظِیر
و الشِّنْظِیرَة و الشُّنْظُورَة: بدخلق، پہاڑ سے پھٹ
کر گرنے والی چٹان۔ شَنَاظِیر الجبل: پہاڑ کے
اطراف و کنارے۔
۴۔ شَنْظَی به: کو ناپسندیدہ باتیں سنانا۔ شُنْظُوَةُ الجبل
جمع شَنَاظٍ: پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کی ایک جانب۔
شنع: ا۔ شَنَعَ ـ شَنْعًا ه: کو برا جاننا، گالی دینا، بے
عزت کرنا۔ شَنِعَ ـ شُنْعًا به: کو قبیح سمجھنا۔ کہتے
ہیں: رأی امرًا شَنِعَ به: اس نے ایک ایسی بات
دیکھی جسے برا سمجھا۔ شَنُعَ ـ شَنَاعَةً و شُنْعًا و
شَنَعًا و شُنُوعًا: قبیح ہونا۔ صفت: شَنِیع جمع
شُنُع و شِنَع و أَشْنَع۔ شَنَّعَ الرجُلَ: کو بہت برا
بھلا کہنا۔ ــ علیه الامرَ: کے کام کو قبیح ٹھہرانا۔ تَشَنَّعَ
القومُ: اختلاف رائے کی وجہ سے لوگوں کی حالت
خراب ہونا۔ ــ الرجُلُ: برے کام کا ارادہ کرنا۔ ــ
الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ اسْتَشْنَعَهُ: کو قبیح
اور مکروہ جاننا۔ الشُّنْعَة و الشَّنَاعَة و الشَّنُوع:
قباحت۔ المُشَنَّع: قبیح، بے بنیاد خبریں اڑانے
والا۔ المَشْنُوع: شرارت اور بدی میں مشہور۔
۲۔ شَنَعَ الرجُلُ: تیار ہونا۔ و أَشْنَعَ البعیرُ: اونٹ
کا دوڑنے میں کوشش کرنا۔ تَشَنَّعَ: دوڑنے میں
کوشش کرنا۔ ــ للامر: کام کے لئے تیار ہونا۔ ــ
السلاحَ: ہتھیار پہننا۔ ــ الغارةَ: عام لوٹ ڈالنا،
حملہ کرنا۔ ــ الفرسَ: گھوڑے پر سوار ہونا، چڑھنا۔
الشنعفة: لمبائی۔ الشُّنْعُوف و الشِّنْعَاف: پہاڑ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کی چوٹی، اونچا پہاڑ، لمبا کمزور آدمی۔

○ شَنُعَ ـ شَنَعًا و شَنَاعَةً: بدصورت ہونا، کریہ ہونا، سخت ناپسند ہونا، گھناؤنا ہونا، خبیث ہونا، نابکار ہونا، سخت بدنما ہونا، خوفناک ہونا، دہشتناک ہونا، شرمناک ہونا، رسوائی کا موجب ہونا۔ شَنَعَ ـ شَنعًا ہ/ب: کو بے عزت کرنا، کی اصلیت ظاہر کرنا، کو بے نقاب کرنا۔ شَنَعَ علی: پر بہتان باندھنا، کو بدنام کرنا، گالی دینا، بدنام کرنا، رسوا کرنا، ازالہ حیثیت عرفی کرنا، کو برا بھلا کہنا، پر عیب لگانا، کو رد کرنا، کو ملامت کرنا۔ شَنیع و شَنِع: بدصورت، نفرت انگریز، کریہ، سخت ناپسندیدہ، گھناؤنا، خبیث، نابکار، سخت بدنما، خوفناک، دہشتناک، شرمناک، رسوائی کا موجب، رسوا کن، فضیحت ناک۔ شُنْعَة: بدصورتی، گھناؤنا پن، خوفناکی، دہشتناکی، کراہت، گھن۔ أشنع: بمعنی شنیع و شنِع۔ شُنغوبه جمع شناغیب: کانٹا، تیز نوک والی کیلی۔ شَنَفَ الآذان: (آواز کا) فردوس گوش ہونا۔ شُنُف جمع شُنُوف: کان کی بالی، آویزہ، بُندہ۔

شنف: ۱۔ شَنَفَ ـ شَنْفًا الیه: کو اعتراض یا تعجب کی نظر سے دیکھنا۔ شَنَّفَ الیه: کو کنکھیوں سے دیکھنا۔ الشانِف (فا): اعراض کرنے والا۔ کہتے ہیں: انه لشانِفٌ عنا بانفه: وہ تکبر کی وجہ سے ہم سے کنی کتراتا ہے۔

۲۔ شَنِفَ ـ شَنَفًا فلانًا و لفلانٍ: سے بغض رکھنا، نفرت کرنا۔ الشَنِف: بغض رکھنے والا۔

۳۔ شَنِفَ ـ شَنَفًا لهُ: کو بھجھ جانا، تاڑ جانا۔ ـ به: کو تاڑ جانا۔

۴۔ شَنَّفَ الجاریةَ: لڑکی کے لئے بالیاں بنانا۔ ـــ الکلامَ: کلام کو مزین کرنا۔ اشْنَفَ الجاریة: لڑکی کے لئے بالیاں بنانا۔ تَشَنَّفَت الجاریةُ: لڑکی کا بالیاں پہننا۔ الشُنْفَ جمع شُنُوف و أشْنَافٌ: کان کی بالیاں۔

شنق: ۱۔ شَنَقَ ـ شَنْقًا البعیرَ: سوار کا اونٹ کی نکیل کھینچ کر اس کا سر اونچا کرنا۔ ـــ القربةَ: مشک کا تسمہ باندھنا۔ ـــ راسَ الدابّة: جانور کے سر کو کسی درخت یا اونچی کھونٹی سے باندھنا۔ ـــ الشیءَ: چیز کو لٹکانا۔ ـــ الخلیَّةَ: شہد کے چھتے میں لکڑی ڈالنا۔ ـــ شَنَقًا و شَنِقَ ـ شَنَقًا: کسی چیز سے محبت کرنا، دل لگانا۔ شَنَّقَ الخلیَّةَ: شہد کے چھتے میں لکڑی ڈالنا۔ اشْنَقَ البعیرَ و القربةَ: بمعنی شَنَقَ البعیرَ و القربة۔ ـــ البعیرُ: اونٹ کا اپنا سر اٹھانا۔ ـــ علی فلانٍ: پر دست درازی کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو لٹکانا۔ ـــ الیدَ إلی العُنق: ہاتھ کو گلے میں ڈال کر طوق بنانا۔ الشَنْق: مجرم کی گردن سے رسی باندھ کر اس کو موت تک لٹکائے رکھنا، پھانسی دینا۔ الشَنَق: رسی، سر کی لمبائی۔ الشِناق جمع شُنُق و أَشْنِقَة: تسمہ یا ڈوری جس سے مشک کا منہ باندھا جاتا ہے، تانت، سر کی لمبائی، ہر وہ ڈوری جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے، اونٹ کے سر کو کھینچنے کی رسی، رسی جس سے ہاتھ گردن سے باندھا جائے۔ القلبُ الشَنِق جمع أَشناق: ہر چیز کا مشتاق اور حریص دل۔ فرسٌ أَشْنَقُ م شَنْقَاء و شِنْقَاء: لمبے سر کا گھوڑا، اسی طرح لمبے سر کا اونٹ۔ الشَنِیق: پھانسی دیا ہوا، لکڑی جو شہد کے چھتے میں ڈالی جاتی ہے۔ المِشناق: ہر چیز کا حریص۔ المشْنَقَة: پھانسی گھر، پھانسی کا آلہ۔

۲۔ شَنَقَ الشیءَ: چیز کو کاٹنا، ٹکڑے کرنا۔ شَانَقَ مُشَانَقَةً و شِنَاقًا ہُ: اپنے مال کو کسی کے مال میں ملانا۔ اَشْنَقَ الرجُلُ (ضد): خون بہا لینا، یا اس پر خون بہا کا واجب ہونا۔ ـــ غَنَمهُ إلی غنم زیدٍ: کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریوں کو ملا کر ان کی تعداد بڑھانا۔ تَشَانَقَا: اپنے مال کو دوسرے کے مال کے ساتھ ملانا۔ الشَنَق: خون بہا۔ المُشَنَّق: قطع کیا ہوا۔

۳۔ الشَنَق: خون بہا۔ الشَنیق: منہ بولا بیٹا۔ الشَنیق: خود پسند، مغرور۔

○ شَنَقَ ـ شَنْقًا ہ: کو لٹکانا۔ ـــ ہ: کو پھانسی دینا۔ شَنق: پھانسی دینا۔ شَنَق: رسی۔ مِشْنَقَة جمع مَشَانِق: پھانسی، پھانسی کا چوکھٹا، سولی، پھانسی کا تختہ، پھانسی گھر۔ مَشْنَقة: پھانسی کا چوکھٹا، پھانسی، سولی۔ مَشْنُوق: جسے پھانسی دی گئی ہو۔ شَنقب: چہا (ایک پرندہ)۔

شنك: الشُنْكُل جمع شَنَاكِل: کپڑوں کی کھونٹی، ہک، کھونٹی، آنکڑا۔

○ شنكل ہ: کو اڑنگا لگانا۔

شنم: شَنَمَ ـ شَنْمًا الجلدَ: چمڑہ چھیلنا۔ الشُنُم: کن کٹے۔ ماءٌ شَنِم: ٹھنڈا پانی۔

شنه: شَنْهَقَ او شَهْنَقَ الحمارُ: گدھے کا رینگنا۔ فصیح نهق یا شهق ہے۔

شنی: الشانِیة جمع شَوَانٍ: بڑا جنگی جہاز۔ (مفرد نادر الاستعمال ہے)

شهب: شَهِبَ ـ و شَهُبَ ـ شَهَبًا: سیاہی مائل سفید رنگ ہونا۔ صفت شَاهِب و أَشْهَب۔ شَهَبَ ـ شَهْبًا و شَهَّبَ هُ الحرُّ: گرمی کا کسی کو جھلس دینا۔ أشهب العامُ القومَ: سال کا قوم کو اموال سے محروم کرنا اور مال نیست و نابود کرنا۔ اِشْهَبَّ و اِشْهَابَّ و إشْتَهَبَ: سیاہی مائل سفید رنگ والا ہونا۔ ـــ الزرعُ: کھیتی کا خشک اور زرد ہونا مگر بیچ میں کچھ سبزہ رہ جانا۔ الشَهْب (مص): برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ۔ الشَهَب و الشُهْبَة: سیاہی مائل سفید رنگ۔ الشَهَابُ و الشَهَابَة: وہ دودھ جس میں دو تہائی پانی ہو۔ الشِهَاب جمع شُهُب و شُهْبَان و شِهْبَان و أَشْهُب: آگ کی چمک، ستارہ، ٹوٹنے والا ستارہ، نیزہ کا چمکدار پھل۔ کہتے ہیں: فلانٌ شهابُ حرب: فلاں جنگ جو اور دلیر ہے۔ (ا ع): گولوں بموں وغیرہ میں رکھے جانے والا سامان جو انہیں آگ لگاتا ہے۔ الشُهُب: قمری مہینہ کی تین سفید راتیں (تیرہ سے پندرہویں راتیں) کیوں کہ ان راتوں میں چاند انہیں مکمل روشن رکھتا ہے۔ الأشْهَب (ح): شیر، مشکل کام۔ عامٌ أَشْهَب جمع شُهْب: قحط اور خوشحالی کا سال۔ یومٌ أَشْهَب: سرد ہواؤں والا اور برفیلا دن۔ جیشٌ أَشْهَب: بڑا طاقتور لشکر۔ الشهباءُ: الأَشْهَب کا مونث۔ حلب شہر کا لقب۔ ـــ من الکتائب: بڑی مختلف و متعدد اسلحہ سے لیس بٹالین۔ سَنَةٌ شَهْبَاء: وہ سال جس میں نہ سبزہ ہو نہ بارش یا بکثرت برف باری والا سال۔ الأشَاهِب: منذر، لخمی کی اولاد کا نام۔

○ شَهَب و شُهبة: خاکستری رنگ، خاکستری، سیاہی مائل سفید۔ شِهاب جمع شُهُب و شُهْبان: لو، شعلہ، لپٹ، آگ، شہاب ثاقب، روشن ستارہ، ستارہ۔ أشْهَب جمع شَهْبَاء جمع شُهُب: خاکستری۔ شام کے شہر حلب کا لقب (Alleppo)۔

شهد: ۱۔ شَهِدَ ـ شُهُودًا المجلسَ: مجلس میں حاضر ہونا۔ ـــ الشیءَ: کسی چیز کا معائنہ کرنا، سے آگاہ ہونا، واقف ہونا۔ ـــ الجمعةَ: جمعہ پانا۔ ـــ شَهَادَةً اللّٰهُ: اللہ کا جاننا یا اللہ کا قبول کرنا۔ شَاهَدَ مُشَاهَدَةً ہُ: کو دیکھنا، کا معائنہ کرنا۔ أشْهَدَ ہُ: کو حاضر کرنا۔ الشَاهِد (فلك): ستارہ۔ صلاةُ الشَاهِد: مغرب کی نماز۔ الشَاهِدَة جمع شَاهِدات و شَوَاهِد: زمین۔ الشَهَادَة: عالم ظاہر (عالم غیب کا مقابل)۔ الشَهِیْد و الشِهِید: جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ المَشْهَد جمع مَشَاهِد: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ، لوگوں کے اجتماع کی جگہ۔ المَشْهَدَة و المَشْهُدَة: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔ امرأةٌ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مُشْہِدٌ: وہ عورت جس کا خاوند موجود ہو۔ اس کا مقابل ہے: امراۃ مُغِیبۃ: وہ عورت جس کا خاوند غائب ہو۔ المَشْہُود (مفع): جمعہ کا دن، قیامت کا دن۔

۳۔ شَہِدَ - شُہُودًا علی کذا: کی گواہی دینا۔ صفت: شاہد جمع شُہُود و شُہَّد۔ - شَہَادَۃً بکذا: کی قسم کھانا۔ — و شَہُدَ ـُ شَہَادَۃً عند الحاکم لفلان او علی فلان: حاکم کے روبرو کسی کے متعلق (یا کے حق میں یا خلاف) گواہی دینا۔ صفت: شَاہِد جمع شَہْد و شُہُود و اَشْہَاد۔ اَشْہَدَ فلاناً علی کذا: فلاں کو کسی پر گواہ بنانا۔ اُشْہِدَ: راہ خدا میں قتل ہونا۔ تَشَہَّدَ: شہادت (گواہی) طلب کرنا۔ — المسلمُ: مسلمان کا نماز میں التحیات پڑھنا جو دو شہادتوں پر مشتمل ہے۔ اِسْتَشْہَدَہٗ: کو گواہی دینے کے لئے کہنا۔ — بہ: سے گواہی میں مدد لینا۔ اُسْتُشْہِدَ: اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ الشَّاہِد (فا): جو اس چیز کی اطلاع دے جو اس نے دیکھی تھی۔ فرشتہ، زبان۔ اسی سے یہ قول ہے: مالہ رواءٌ و لاشاہِدٌ: نہ وہ خوش منظر ہے نہ خوش بیان۔ نحو وغیرہ کے قواعد میں عربی زبان کے ماہرین کا ثبوت میں پیش کیا جانے والا کلام۔ الشاہِدَۃ جمع شاہِدات و شواہِد: شاہد کا مؤنث۔ الشہادَۃ (مص): یقینی اطلاع یا خبر، گواہی، قسم، اللہ کے راستے میں موت، ڈاکٹر کی مریض کو بیماری یا صحت کا سرٹیفکیٹ، حکومت یا مدرسہ کی طرف سے جاری کردہ امتحان میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ۔ - الابتدائیۃ: جونیئر ہائی سکول سرٹیفکیٹ، سیکنڈری سکول کے چار سال مکمل کرنے پر جاری کردہ سرٹیفکیٹ۔ الشَّہِید و الشِّہِید: گواہی میں امین، حاضر۔ —— جمع شُہَدَاء م شہیدَۃ: اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہونے والا۔ اسم الشہادۃ المَشْہَد جمع مشاہِد: شہید کے قتل ہونے کی جگہ۔ المُشْہَد: اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا۔

۳۔ الشُّہْد و الشَّہْد جمع شِہَاد: وہ شہد جو موم سے نچوڑ کر نکالا نہ گیا ہو۔ الشُّہْدَۃ و الشَّہْدَۃ: زیادہ صاف شہد۔ الشاہِد من الامور: فوری کام۔

۞ شَہِدَ - شُہُودًا ہ: کو دیکھنا، کا گواہ ہونا؛ کسی چیز کا ذاتی تجربہ کرنا۔ — ہ: کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کا چشم دید گواہ ہونا۔ شہِدَ ہ: کسی جگہ پر موجود ہونا۔ — ہ: (تقریب) میں حاضر ہونا۔ — ہ: کسی کے عوام کے سامنے ہونے پر موجود ہونا۔ — ہ: کو دیکھنا۔ — شہادۃً: گواہی دینا، شہادت دینا۔ — ب: کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا۔ - ان: تصدیق کرنا کہ۔ - علی: کے خلاف گواہی دینا، کے بارے میں یا کی گواہی دینا۔ - ل: کے حق میں گواہی دینا۔ - علی: (کسی دستاویز) کی گواہی دینا۔ — باللّٰہ: اللہ کی قسم کھانا۔ — قانونیاً: بطور ناظر رجسٹری تصدیق کرنا natarize۔ شاہد ہ: کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھنا، دیکھنا، کا معائنہ کرنا، مشاہدہ کرنا، کی تصدیق کرنا۔ اَشْہَدَہ علی: کے لئے کسی کو بطور گواہ طلب کرنا۔ اُشْہِدَ: شہید ہونا۔ اِسْتَشْہَدَہ/ب علی فی: کو کسی معاملہ میں کے خلاف یا حق میں بطور گواہ پیش ہونے کے لئے کہنا یا اس کا کسی معاملہ میں کسی کے خلاف یا حق میں بطور گواہ حوالہ دینا۔ استشہدب: کا حوالہ دینا، کا قول پیش کرنا، سے اقتباس پیش کرنا۔ اُسْتُشْہِد: شہید ہونا۔ شَہْد و شُہْد: شہد، شہد کا چھتہ۔ شُہْدَۃ: ذبل۔ شَہِید جمع شُہَدَاء: گواہ، شہید۔ شہیدۃ: (عورت) شہید۔ شہادۃ: شہادت، گواہی، بیان، سرٹیفکیٹ، سند، تصدیق، صداقت نامہ، حلف نامہ، تحریری حلفیہ بیان، سرکاری تصدیق، تصدیق نامہ، مراسلہ تعارف، شناخت، شہادت (اسلامی عقیدہ پر مبنی کلمہ) شہادت جیسے: شہادۃ ان لا الٰہ الا اللّٰہ و ان محمداً عبدہ و رسولہ۔ شہادۃ الاثبات: استغاثہ کے حق میں گواہی۔ شہادۃ حسن السیر والسلوك: اچھے چال چلن کا سرٹیفکیٹ۔ شہادۃ خلو الطرف عن العمل: کسی عہدے سے سبکدوش ہونے کا سرٹیفکیٹ۔ شہادۃ الدراسۃ الثانویۃ: سیکنڈری سکول ڈپلوما۔ شہادۃ زُور: جھوٹی گواہی۔ شہادۃ علی شہادۃ: بالواسطہ شہادت۔ شہادۃ العالِمیۃ: اعلیٰ تعلیم کا ڈپلوما۔ الازہر یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین تعلیم کا ڈپلوما۔ شہادۃ عالیۃ: ڈپلوما۔ شہادۃ النفی: صفائی کے حق میں گواہی۔ شہادۃ الولادۃ: پیدائش کا سرٹیفکیٹ۔ مَشْہَد جمع مَشَاہِد: جائے اجتماع، اجتماع، وہ جگہ جہاں کوئی شہید ہوا ہو۔ مذہبی یا مقدس بارگاہ مزار، روضہ، جلوس، منظر، نظارہ، دلچسپی کی جگہ یا چیز، جائے وقوع، رخ، پہلو۔ مشہد غنائی: گانے کا منظر، نغمہ سرائی۔ مشاہد الحیاۃ: زندگی کے پہلو، رخ۔ مشاہَدہ: دیکھنا، معائنہ جمع مشاہدات: منظر، نظارہ؛ سایہ، بھوت، خواب، تصور، سیاسی دور اندیشی یا فراست، دوربین فراست۔ اِشْہاد جمع اشہادات: تحریری تصدیق۔ اِسْتِشْہاد: حوالہ، اقتباس، قول۔ شُہُود [illegible] شُہُود و اَشْہَاد (علی: کا) گواہ، وثیقہ نویس، ناظر رجسٹری۔ جمع شَوَاہِد (علی: کے لئے شہادت (کا ایک حصہ) تصدیق، اقتباس (قول) جو متن کی شہادت کا کام دے، شہادت، تصدیقی بیان، قبر کا کتبہ، سنگ مزار، لوح مزار، کتبہ۔ شاہد الاثبات: استغاثہ کا گواہ۔ شاہد السمع: شنید کا گواہ۔ شاہد العین، شاہد عِیَان، شاہد عِیَانی: چشم دید گواہ۔ شاہد النفی: گواہ صفائی۔ علی رؤوس الأشہاد: برسرعام، کھلم کھلا، علی الاعلان۔ شاہِدَۃ جمع شواہد: قبر کا کتبہ، سنگ مزار، لوح مزار، کتبہ، انگشت شہادت، اصلی نقل، چٹھی کی نقل، نقل مطابق اصل، نقل۔ مثنی۔ الشاہِدَۃ: زمین (the Earth)۔ مَشْہُود: گواہوں اور ناظرین کے سامنے واقع ہونیوالا، بہت سے ناظرین کے سامنے ہونے والا، حاضرین کی اچھی خاصی تعداد کی موجودگی والا؛ یادگار (دن، واقعہ)۔ بالجرم المشہود: رنگے ہاتھوں، جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ الیوم المشہود: یوم البعث، جشن کا دن، خوشی کا دن، تہوار کی عام چھٹی کا دن۔ مُشَاہِد جمع مُشَاہِدون: ناظر، تماشائی، دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا۔ مُشَاہَد: مرئی، جو دیکھا جا سکے، محسوس، قابل ادراک۔ جمع مُشَاہَدات: مرئی اشیاء، مناظر۔

شہر: ۱۔ شَہَرَ ـَ شَہْرًا ہ بکذا: کو کسی بات سے مشہور کرنا۔ — السیفَ: تلوار سونت کر بلند ہونا۔ شَہَّرہ بکذا: کو سے مشہور کرنا۔ — فلاناً: کو رسوا کرنا، بدنام کرنا۔ — السیفَ: تلوار سونت کر بلند کرنا۔ اَشْہَرَ الامرَ: کسی امر کو ظاہر کرنا اور مشہور کرنا۔ اِشْتَہَرَ الامرُ: کسی امر کا مشہور ہونا۔ — الأمرَ: کسی امر کو مشہور کرنا۔ اِشْتَہَر بالفضل: کسی کا فضیلت میں شہرت حاصل کرنا۔ الشَّہْر (مص) جمع اَشْہُر و شُہُور: دانا، ہلال چاند۔ الشُّہْرَۃ: برائی میں شہرت، شہرت، رسوائی۔ الشَّہِیر م شَہِیرَۃ: مشہور، نامور۔ المشہور م مشہُورَۃ: مشہور، نامور۔

۲۔ شَاہَر شِہاراً و مُشَاہَرَۃً ہ: کو ایک مہینہ کے لئے نوکر رکھنا۔ اَشْہَرَ: پر ایک مہینہ گزرنا کہتے ہیں: اشہرنا فی ہذا المکان: ہم نے اس جگہ ایک مہینہ قیام کیا۔ — المرأۃُ: عورت کا جننے کے مہینہ میں داخل ہونا۔ الشَّہْر جمع اَشْہُرٌ و شُہُورٌ: مہینہ۔ الشہور الشمسیۃ: شمسی مہینے: کانون الثانی (۳۱ دن): جنوری۔ شباط: (۲۸ یا ۲۹ دن) فروری۔ اذار: (۳۱ دن) مارچ۔ نیسان: (۳۰ دن) اپریل۔ ایّار: (۳۱ دن)

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مئی۔ حزیران: (۳۰ دن) جون۔ تموز: (۳۱ دن) جولائی۔ آب: (۳۱ دن) اگست۔ ایلول: (۳۰ دن) ستمبر۔ تشرین الاول: (۳۱ دن) اکتوبر۔ تشرین الثانی: (۳۰ دن) نومبر۔ کانون الاول: (۳۱ دن) دسمبر۔ الشُّهُور القَمَرِيَّة: محرم (۳۰ دن)، صفر (۲۹ دن)، ربیع الاول (۳۰ دن)، ربیع الثانی (۲۹ دن)، جمادی الاولیٰ (۳۰ دن)، جمادی الآخرۃ (۲۹ دن)، رجب (۳۰ دن)، شعبان (۲۹ دن)، رمضان (۳۰ دن)، شوال (۲۹ دن)، ذوالقعدہ (۳۰ دن)، ذوالحجہ (۲۹ دن)۔ عربوں کے ہاں الأشهر الحرم (مقدس مہینے) چار ہیں، جو یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تین مہینے لگاتار اور ایک الگ ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب ان مہینوں میں لڑائی جائز نہیں سمجھتے تھے سوائے بنی خثعم وطَیّ کے، جو ان مہینوں میں جنگ کو جائز سمجھتے تھے۔

۞ شَهَرَه ہ: کو مشہور کرنا، بدنام کرنا، رسوا کرنا۔ ــ ہ: کو پھیلانا، ظاہر کرنا، فاش کرنا، افشا کرنا، کا باضابطہ یا سرکاری طور پر اعلان کرنا، اعلان کرنا۔ ــ ہ: (ہتھیار) نکالنا، نیام سے نکالنا۔ شُهِرَ: مشہور ہونا یا ہو جانا، بدنام ہونا یا ہو جانا۔ (ب سے کے کیلئے کے نام سے)۔ شهر الحربَ على: کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ شهر البندقية على: پر بندوق تاننا۔ شَهَّرَه ہ: کو مشہور کرنا، بدنام کرنا۔ ــ ہ: کو پھیلانا، ظاہر کرنا، فاش کرنا، افشا کرنا، کا باضابطہ یا سرکاری طور پر اعلان کرنا، اعلان کرنا۔ ــ ہ: کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، افتراء کرنا، کو سرعام گالیاں دینا، رسوا کرنا، برا بھلا کہنا، کی مذمت کرنا، کو اعلانیہ مجرم ٹھہرانا۔ شَاهَرَه: کسی کو ایک ماہ کے لئے نوکر رکھنا، کام پر لگانا۔ ہ: کو ایک ماہ کے لئے کرایہ پر لینا۔ أَشْهَرَ ہ: کو ظاہر کرنا، کا سرکاری طور پر یا باضابطہ اعلان کرنا، اعلان کرنا، کو پھیلانا، افشا کرنا۔ ــ ہ: (ہتھیار) نکالنا، (تلوار) میان سے نکالنا۔ أَشْهَرَ وأُشْهِرَ المزادَ: نیلامی میں فروخت کرنا۔ أَشْهَرَ مَزَادَ بيعِ شيءٍ: کو نیلام کرنا، کو نیلامی میں رکھنا۔ إشْتَهَرَ: (ب سے کے لئے یا کے نام سے) مشہور ہونا یا ہو جانا، بدنام ہو جانا۔ ــ عن: کی (کوئی خصوصیت وغیرہ) معلوم ہونا۔ إشْتَهَرَ: دور دور تک پھیلا ہونا، عام ہونا۔ شَهْر جمع أَشْهُر و شُهُور: نیا چاند (ہلال)، مہینہ۔ شَهْرُ العسل: ہنی مون، ماہِ عسل۔ شهري: ماہانہ، ماہوار۔ شهريًا: ماہانہ، ماہوار۔ إشتراك شهري: ماہانہ چندہ، ماہانہ فیس۔ نصفُ شهري: پندرہ روزہ۔ شَهرِيَّة: ماہانہ تنخواہ۔ شُهرة: شہرت، مشہوری، رسوائی، بدنامی، تشہیر، خاندانی نام۔ شُهرة عالمية: عالمگیر شہرت۔ شَهِيرٌ (ب): (کے نام سے) معروف، مشہور، بدنام۔ أَشْهَر: زیادہ معروف، زیادہ مشہور۔ مُشَاهَرة: ماہوار تنخواہ جمع مشاهرات: ماہانہ ادائیگیاں، ماہانہ الاؤنس۔ مُشَاهَرَةً: ماہانہ، ماہوار۔ إشهار: اعلان، سرکاری یا باضابطہ اعلان، اعلان، نیلامی، پبلسٹی، ایڈورٹائزنگ۔ إشهارُ الافلاس: دیوالہ یا دیوالیہ پن کا نوٹس، دیوالیہ پن کا بیان۔ اشتهار: شہرت، مشہوری، بدنامی، رسوائی۔ مَشْهُور جمع مَشَاهِير: مشہور، معروف، بدنام، رسواء، دور دور تک پھیلا ہوا، عام مشہور نامی گرامی شخصیت، مشہور شخصیت، نامور شخصیت۔ على المشهور: عام خیال کے مطابق جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے (تھا)۔ مَشْهُور: معروف، مشہور، نامور، بدنام، رسوا۔

شهق: شَهَقَ ـِ و شَهِقَ ـَ شَهِيقًا و تَشْهَاقًا الحمارُ: گدھے کا رینگنا۔ شَهِيقًا و تَشْهَاقًا و شُهَاقًا الرجلُ: رونے میں سکی لینا، غرغرہ والا ہونا۔ شُهُوقًا الجبلُ وغيرُه: پہاڑ وغیرہ کا بلند ہونا صفت شاهِق۔ کہتے ہیں: شهق الرجلُ: مرد نے سانس کھینچ کر سسکیاں لیں۔ شهقت عيني عليه: میری نظر اس پر گڑ گئی۔ (یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز یا شخص اچھا لگے)۔ تَشَهَّقَ عليه: کسی پر نظر جما دینا۔ ذو شاهِق: سخت غضبناک۔ الشَّهْقة: اسم مرۃ، چیخ۔ (کہتے ہیں: شهق فلان شهقة الموت: اس نے موت کی چیخ ماری)۔ ــ عند العامة (طب): کالی کھانسی۔ التَّشْهَاق (مص): کہتے ہیں: ضحكٌ تشهاق: زور کی ہنسی۔

۞ شَهَقَ ـِ شَهِيقًا: (گدھے کا رینگنا)۔ ــ و شَهِقَ ـَ شهيقًا و شُهاقًا و تَشْهَاقًا: سانس اندر کو کھینچنا، گہری آہ بھرنا، سسکیاں بھرنا یا لینا، کراہنا۔ أَشْهَقَ بالبكاء: زور زور سے رونے لگنا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگنا۔ شَهْقَة: گہری آہ (بھرنا)، سسکی (بھرنا، لینا)۔ شهيق: (گدھے کا) رینگنا، سسکیاں لینا، سسکیاں، آہ بھرنا، آہیں، سانس اندر کھینچنا، لینا۔ شاهِق جمع شواهِق: بلند، اونچا (پہاڑ یا عمارت)۔ علو شاهق: ہولناک بلندی۔ شواهق: بلندیاں، اونچی جگہیں۔

شهل: شَهِلَ ـَ شَهَلًا و اشْهَلَّ اشْهِلالًا: آنکھ کا نیلگوں سیاہ ہونا۔ صفت: أَشْهَل م شَهْلاء جمع شُهْل: کہتے ہیں: عينٌ شهلاء: نیلگوں سیاہ آنکھ۔ شَهَّلَ ثوبَهُ ف تَشَهَّلَ: لباس کو چھوٹا کرنا یا تھوڑا سا اوپر اٹھانا جس سے اس کا چھوٹا یا اونچا ہو جانا (عام بول چال میں)۔ ــ في عمله فتَشَهَّلَ: بڑا کام مکمل کرنا اور اس کا مکمل ہو جانا یا کام جلدی میں کر لینا (عام بول چال)۔ شاهَلَ مُشَاهَلَةً: باہم گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کی چٹکی لینا۔ تَشَهَّلَ: چہرے کی رونق کا جاتا رہنا۔ الشَّهَل و الشُّهْلة: (آنکھ کا) سیاہ نیلگوں رنگ۔ الشَّهْلة: بڑھیا۔ الشَّهْلاء: حاجت۔ کہتے ہیں: قضيتُ من فلان شَهْلائي: میں نے فلاں سے اپنی حاجت پوری کی۔ ۞ شَهَّلَ ہ: کو تیز تر کرنا یا کی چال یا دوڑ بڑھانا، تیز کرنا، تیز لے جانا یا چلانا، جلدی کرنا، چلتا کرنا۔ ــ ہ: کو جلدی سے ہٹانا۔ شَهِل: تیز، فوری، مستعد۔ شُهْلَة: آنکھوں کا سیاہ نیلا رنگ۔

شهم: ا۔ شَهَمَ ـَ شَهْمًا و شُهُومًا الفرسَ: گھوڑے کو ڈانٹنا، للکارنا۔ ــ الرجُلَ: کو گھبرا دینا، ڈرانا۔ المَشْهُوم: خوفزدہ۔

۲۔ شَهُمَ ـُ شَهَامَةً و شُهُومَةً: تیز فہم ہونا، ذکی ہونا۔ الشَّهْم جمع شِهَام: ذکی القلب، سردار جس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہو۔ ــ جمع شُهُوم: چست تیز رفتار اور طاقتور گھوڑا۔ المَشْهُوم: تیز خاطر۔

۳۔ الشَّيْهَم جمع شَيَاهِم (ح): نر سیہی۔ الشَّيْهَمة: بڑھیا۔

۞ شَهْم جمع شِهام: زیرک، دانشمند، ذکی، ہوشیار، چالاک، سیانا، تیز فہم، تیز زیرک، نڈر، بے خوف، منچلا، دلیر، جوانمرد، بہادر، مشہور، توانا، طاقت ور، باہمت، مستعد، سرگرم، اونچے خاندان کا، عالی نسب، امیرزادہ، نواب، تعلق دار، شجاع، شاندار، مہذب، شائستہ، معقول، آبرومندانہ، بھلا مانس، شریف۔ شَهَامَة: بصیرت، فراست، زیرکی، چالاکی، ہوشیاری، جسارت، دلیری، بہادری، شریف النفسی، قوت، طاقت زور، جوش، سلیقہ، شائستگی، معقولیت، مذاق سلیم، پاس لحاظ، غیرت مندی۔

شهن: الشاهين جمع شَواهِين و شياهين (ح): شاہین (پرندہ)، ترازو کا عمود (ڈنڈی) (فارسی)۔

شها: ا۔ شَهَا ـُ و شَهِيَ يَشْهَى شَهْوَةً واشتهى الشيءَ: کسی چیز کو پسند کرنا، بہت چاہنا۔ شَهُوَ ـُ الطعامُ: کھانے کا لذیذ ہونا۔ شَهَّى الرجُلَ: کو خواہش پر اکسانا۔ ــ عليه كذا: کو کسی چیز کی تجویز

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پیش کرنا، سے تحکمانہ انداز سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ کہتے ہیں: هذا الشیء یُشْهِّي الطعامَ: یہ چیز کھانے کی اشتہا پیدا کرتی ہے۔ أَشْهَی ہُ: کو اس کی پسندیدہ چیز دینا۔ تَشَهَّی الشیءَ: کو پسند کرنا، چاہنا۔ تَشَهَّی علیه کذا: سے کی بار بار خواہش پیش کرنا۔ الشَهْوة (مص) جمع شَهَوَات و شُهًی: خواہش (طب) بھوک، اشتہاء۔ الشَهَّاء: بہت خواہش کرنے والا۔ الشَهِيّ: خواہشمند، چاہنے والا ـــ و المُشْتَهَی: مرغوب، لذیذ۔ کہتے ہیں شیءٌ شَهِيٌّ: لذیذ چیز۔ الشَهوان م شَهْوی جمع شَهَاوَی و الشَهْوَانی: خواہشمند۔ الشَاهِيَة: خواہش۔

۲۔ شَاهَی ہُ: سے مشابہت رکھنا۔

۳۔ أَشْهَی ہُ: کو نظر لگانا۔ شاهي البَصَر: تیز نظر۔

○ شَهَا ـ و شَهِيَ یَشْهَی شَهْوَةً ہ: کی خواہش کرنا، کا خواہش مند ہونا، کا لالچ کرنا، کی طمع کرنا، کا آرزومند ہونا، متمنی ہونا۔ شَهَّی ہ: کو لالچی بنانا، حریص بنانا، للچانا، ورغلانا، کسی میں لالچ ابھارنا، خواہش یا اشتہاء جگانا (ہ کی)۔ شَهَّی: کھانے کا بھوک کو تیز کرنا، اشتہاء انگیز ہونا۔ تَشَهَّی و اَشْتَهَی ہ: کا لالچی ہونا، حریص ہونا، آرزومند ہونا، متمنی ہونا، کی خواہش کرنا، کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، کی اشتہاء محسوس کرنا۔ شیءٌ لا یُشْتَهَی: ناپسندیدہ چیز۔ شَهْوَة: لالچ، طمع، حرص، آرزو، خواہش، سرگرم خواہش، بڑی خواہش، سخت آرزو، تمنا، شوق، عشق، جنسی خواہش، خواہش نفس، شہوت، نفسانی خواہش، نفسانیت، بھوک۔ شَهْوِی: بندۂ نفس، شہوت پرست، حسیاتی، حسی، حواسی، آزادانہ، کسی پابندی کے بغیر۔ شَهْوَان م شَهْوَی جمع شَهَاوَی: لالچی، طامع، حریص، عیاش۔، اوباش، شہوت پرست، نفس پرست، شہوانی، آوارہ، بدچلن، بدکار۔ شهوانی بمعنی شهوان۔ شَهِيّ: دلکش، خوشگوار، مرغوب، اشتہاء انگیز، لذیذ، پرکشش، رغبت دلانے والا۔ شهية: اشتہاء، بھوک۔ فاتح الشهية یا ما یفتح الشهية: اشتہاء انگیز، بھوک کا محرک۔ قِلّة الشَهِيّة للطعام: بھوک کا فقدان۔ مُشَهٍّ: اشتہاء انگیز۔ مُشَهِّيات: اشتہاء انگیز مشروبات وغیرہ، اچار، چٹنیاں وغیرہ۔ مُشْتَهًی: مرغوب، خوش گوار۔ مُشْتَهَیات: مرغوبات۔

شاب: ا۔ شَابَ ـ شَوْبًا و شِيَابًا الشیءَ: کو ملانا۔ إِنْشَابَ انْشِيَابًا و اشتاب اشْتِيَابًا: ملنا، مخلوط ہونا۔ الشَوْب (مص): وہ چیز جسے دوسری میں ملایا گیا ہو۔ الشَوْبَة: اسم مرة۔ الشِيَاب (مص): ملاوٹ۔ المَشُوب و المَشِيب: ملا ہوا، مخلوط۔ المُشَاوَب جمع مَشَاوِب: بوتل کا ریپر۔

۲۔ شَابَ ـ شَوْبًا و شِيَابًا الرجُلَ: سے خیانت کرنا، کو دھوکا دینا۔ الشَوْبَة: دھوکا۔ الشَائِبَة: شائب کا مؤنث اور شوائب کا واحد اور معنی عیوب، خطائیں، غلطیاں، قصور، صدمات، ہول۔

۳۔ شَابَ ـ شَوْبًا و شِيَبًا و شَوَّبَ تَشْوِيبًا عنه: کو ملکے سے ہٹانا۔

۴۔ شَوَّبَ فلانٌ: کو گرمی لگنا۔ صفت مُشَوِّب م مُشَوِّبَة: (عام بول چال)۔ الشَوْب: گرمی (سریانی عام بول چال)۔

۵۔ الشَوْب: گندھے ہوئے آٹے کا پیڑا۔ شهد ليلة الشَيْبَاء: مہینہ کی آخری رات۔

○ شَابَ ـ شَوْبًا وِ شِيابا ہ ب: کو سے ملانا ـــ ہ: میں ملاوٹ کرنا، آمیزش کرنا، کھوٹ ڈالنا، کو خراب کرنا، بے اثر کرنا، آلودہ کرنا، ناپاک کرنا، نجس کرنا، بگاڑنا، داغدار کرنا، پر دھبہ لگانا۔ لاتشوبه شائبة: بے قصور، بے گناہ، بے عیب، بے داغ۔ شَوْب: مرکب، آمیزہ، داغ دار کرنا، دھبا لگانا، گدلا کرنا، میلا کرنا؛ نقصان، کمزوری، داغ، دھبہ، خرابی، عیب، نقص، گرم ہوا۔ شَائِبة جمع شوائب: نجاست غلاظت، کیچڑ، داغ، دھبا، خرابی، عیب، نقص، خطا، غلطی، شک و شبہ، بدگمانی، شک و شبہ کرنے کی وجہ، مشتبہ حقیقت۔ مَشُوب: ملاوٹ شدہ، ملایا ہوا، آمیزش کیا ہوا، کھوٹ شامل کیا ہوا۔ مُشُوب بالهموم: پریشانیوں میں مبتلا۔

شوح: ا۔ شَوَّحَ الشیءَ: کو نہ پہچاننا، کا انکار کرنا۔ الشَوْحَة (ح): چیل۔

۲۔ الشوحط: جس کا واحد الشَوْحَطَة ہے): وہ درخت جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔

○ شُوبَق جمع شوابِق و شوبك جمع شوابك: بیلن (rollingpin)۔ شَوَّحَ ہ: کو کباب کرنا، بھوننا۔ شُوح: (اسم جنس واحد شُوحَة) صنوبر، شمشاد۔ شَوْحَة: چیل۔

شوذ: ا۔ شَوَّذَت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا ـــ السحابُ الشمسَ: بادل کا سورج پر چھا کر گھیر لینا ـــ ہُ: کسی کو عمامہ باندھنا۔ تَشَوَّذ و اشتاذ: عمامہ باندھنا، پگڑی پہننا۔ المِشْوَذ و المِشْوَاذ جمع مَشَاوِذ و مَشَاوِید: عمامہ، پگڑی۔

۲۔ [illegible] کہتے ہیں [illegible]

marfat.com

یعنی وہ خیر الخلق ہے۔ المِشْوَذ و المِشْوَاذ جمع مَشَاوِذ و مَشَاوِید: بادشاہ، سردار۔

شار: ا۔ شَارَ ـ شَوْرًا و شِوَارًا الدابةَ: جانور کو سدھانا، جانور پر آزمائش کے لئے سوار ہونا، جانور کو خریداروں کو دکھاتے ہوئے۔ اس پر سوار ہو کر دکھانا۔ شَوَّر الدابةَ: بمعنی شارَ الدابةَ۔ أشارَ الدابة: بمعنی شارَ الدابةَ۔ اِسْتَشَارَ: عمدہ لباس پہننا۔ الشَارَة و الشُورَة و الشُوَار و الشِوَار و الشِيَار: حسن و خوبصورتی، ہیئت، لباس، زینت، گھر کا عمدہ سامان، منظر، تجربہ سے حاصل ہونے والی واقفیت۔ الشَوَار: بمعنی شُوار۔ ریحٌ شَوَار: نرم ہوا۔ الشَوْرَة: بمعنی الشارة: شار کا اسم مرة۔ الشَيِّر جمع شُوَرَاء: خوبصورت، حسین۔ المَشُور (مفع): آراستہ، مزین۔ المِشْوَار جمع مَشَاوِیر: تجربہ سے حاصل شدہ واقفیت، منظر، جانور دکھانے کی جگہ۔

۲۔ شَارَ ـ شَوْرًا و شِيَارًا و شِيَارَةً و مَشَارًا و مَشَارَةً العسلَ: شہد چھتے سے نکالنا، چھتے سے نکالے ہوئے شہد کو مَشُور کہا جاتا ہے۔ اَشَارَ العسلَ: چھتے سے شہد نکالنا ـــ فلانًا عَسَلًا: کسی کی شہد چھتے سے نکالنے میں مدد کرنا۔ اِشْتَارَ اشتیارًا العسلَ: شہد حاصل کرنا۔ استشار العسلَ: شہد حاصل کرنا۔ الشَوْرُ (مص): چھتے سے نکالا ہوا شہد۔ الشُوْرَة: شہد کی مکھیوں کا چھتا۔ المَشَار: شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔ المِشْوَر جمع مَشَاوِر: وہ چیز جس سے شہد نکالا جاتا ہے۔ المِشْوَار جمع مَشَاوِیر: شہد نکالنے کا آلہ۔ المِشْوَارة: شہد کی جگہ۔

۳۔ شَارَ ـ شَوْرًا و شِوَارًاتِ الابلُ: اونٹوں کا موٹا اور خوبصورت ہو جانا۔ اشتارت الابلُ: اونٹوں کا کسی قدر موٹا ہو جانا۔ اِستشارت الابلُ: اونٹوں کا موٹا اور خوبصورت ہو جانا۔ الشِيَار: کہتے ہیں خيلٌ شِيَار: موٹے خوبصورت گھوڑے۔ المِشْوَار: کہتے ہیں اخذت الخيلُ مِشْوَارها: گھوڑے موٹے اور خوبصورت ہو گئے۔

۴۔ شَوَّرَ اِلیه: کو اشارہ کرنا۔ اَشَارَ الیه و اَشَارَ بیده: کو اشارہ کرنا، کو ہاتھ سے اشارہ کرنا ـــ به: کو واقف کرانا ـــ علیه: کو حکم کرنا، نصیحت کرنا اور ٹھیک راہ بتانا۔ شَاوَرَہُ فی الامر: سے کسی معاملہ پر مشورہ طلب کرنا۔ تَشَاوَرَ و اِشْتَوَرَ القومُ: آپس میں مشورہ کرنا، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا۔ اِسْتَشَارَ الامرُ: واضح ہونا، روشن ہونا ـــ ہُ: سے مشورہ طلب

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا۔الإشارۃ (ع ج) علامت جیسے جمع کی علامت
+اور تفریق کی علامت۔شارات الرتبۃ نشان
ہائے امتیاز جو چھوٹی ڈھالوں یا شرفاء کے محلوں کی
دیواروں پر بنائے جاتے تھے۔الشور في اصطلاح
العامۃ: مشورہ۔کہتے ہیں: أشار علیہ بأن یفعل
کذا یعنی اس نے اسے ایسا کرنے کا مشورہ دیا۔الشُوری
تَشاوَر یا أشار علیہ کا اسم۔مشہور قول ہے کہ:
ترك عُمَرُ الخلافۃ شُورٰی یعنی حضرت عمرؓ نے
خلافت اس حالت میں چھوڑی کہ اس میں باہم مشورہ
کیا جاتا تھا۔مجلس الشوری مشاورتی کونسل۔
الشَیِّر جمع شُوراء: جس سے مشورہ کیا جائے،
وزیر۔المَشُورۃ و المَشْوَرۃ جمع مَشُورات:
أشار علیہ کا اسم: مشورہ، نصیحت۔المُشِیر
(فا) فی اصطلاح أرباب السیاسۃ وزیر کے
اوپر درجہ پر فائز شخص یعنی مشیر، صلاح کار یا کونسلر
advisor, counsellor اور consultant مشیر
خصوصی۔۱۹۳۳ء میں عراق نے مشیر کو فیلڈ مارشل کے
معنی میں استعمال کیا۔ ۱۹۳۹ء میں فلیٹ ایڈمرل
fleet admiral کے معنی میں مستعمل ہوا۔
المُشِیرِیَّۃ: کونسلر یا ایڈوائزر کا رتبہ۔المُشِیرۃ:
انگشت شہادت (انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی)۔
۵۔شَوَّرَ بہ: کو شرمندہ کرنا۔تَشَوَّرَ: شرمندہ ہونا۔
الشَوْرَۃ: شرمندگی، خجالت۔
۶۔شَوَّرَ النارَ و بالنار: آگ کو شعلہ زن کرنا۔أشارَ
النارَ و بالنار: آگ کو شعلہ زن کرنا۔أشْوَرَ
إشْوِراراً النارَ و بالنار: آگ کو شعلہ زن کرنا۔
۷۔الشُوار عند العامۃ: اترائی کی طرف کسی جگہ کا
کنارا۔اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں شَوَّرَ الحمارُ:
یعنی گدھا اترائی کی جگہ تک جا پہنچا (سریانی)۔
الشُورَۃ عند العامۃ: درختوں کی قطار، زمین کا لمبا اور
تنگ قطعہ یا پٹی۔المَشارَۃ جمع مَشاوِر و
مَشائِر: قابل کاشت قطعۂ زمین۔المِشْوار جمع
مَشاوِیر: دھنئے کی کمان کی تانت، پیدل چلنے یا
سواری کی ایک دوڑ (عام بول چال)، سندیسے کا سر،
چکر۔
۸۔الشَوْرَبَۃ (ط): شوربا (فارسی)۔
○ شَوَّرَ إلی: کو اشارہ دینا، اشارہ کرنا (انگلی سے) کو
سگنل کرنا، اشارات سے اطلاع دینا، کو آنکھ سے اشارہ
کرنا، کو واضح کرنا، کی طرف رخ کرنا۔تشاوَرَۃ۔ کا
مشورہ طلب کرنا، سے مشورہ کرنا۔تشاوَر نفسہ
اپنے آپ سے مشورہ ۔۔۔ سوچنا۔خیال آنا۔۔۔

إلی/ل: کو اشارہ کرنا، سگنل کرنا۔۔۔ إلی/ل ب:
کو اشارہ سے کچھ کرنے کو کہنا۔ أشار إلی: سے کہنا، کو
مدعو کرنا، پر زور دینا۔۔۔ إلی: کا اشارہ کرنا، تلمیح کرنا،
کنایہ کرنا، سے اشارۃً کہنا۔۔۔ إلی/علی: واضح
کرنا، ظاہر کرنا بتانا۔۔۔ إلی علی: کی توجہ کسی بات
پر مبذول کرنا۔۔۔ علی ب: کو کا مشورہ دینا۔۔۔
علی أن: کو کچھ کرنے کا مشورہ دینا۔۔۔ علی ب:
کو کی تجویز دینا۔۔۔ علی ان: کو کچھ کرنے کی تجویز
دی۔۔۔ علی ب/أن: کو کچھ کرنے کا حکم دینا۔۔۔
ب: کچھ بیان کرنا، بتانا۔مایُشار إلیہ بالبنان:
بہت ہی غیر معمولی (بات وغیرہ)، بہت نمایاں (چیز،
مسئلہ وغیرہ)۔تَشاوَر مع فی: سے کے بارے میں
مشورہ کرنا۔استشارہ: سے مشورہ طلب کرنا، سے
مشورہ کرنا۔شارۃ جمع شارات: علامت، ٹوکن،
امتیازی نشان، بیج (badge)، وضع قطع، بھیس، خارجی
مظہر۔شارۃ الصلیب: صلیب کی علامت۔
إسْتِشاری: مشاورتی۔مُشاوِر: مشیر، صلاح کار
کونسلر counsellor، مشیر خاص consultant۔
مُشِیر إلی: کی علامت، کی دلیل۔مُشِیر: مشیر،
صلاح کار، کونسلر counsellor، مشیر خاص، فیلڈ
مارشل، فلیٹ ایڈمرل (fleet admiral)۔المُشار
إلیہ: مذکورہ بالا، مذکورہ۔مُستشار: صلاح کار،
مشیر خاص، مجلس قانون ساز کا رکن، رکن مقننہ، رکن
شوری، کونسلر (counsellor)، چانسلر
(chancellor)۔مستشارُ السِفارۃ: سفارت
خانہ کا مشیر۔مُستشار المُفَوَّضِیَّۃ: چھوٹے
درجے کے سفارت خانہ کا مشیر counsellor of
legation۔دار المُستشارِیَّۃ: چانسلر کا دفتر،
دیوان وزارت، سفارت خانے کا دفتر۔
○ شورت: (انگریزی) مختصر فیچر (فلموں میں)
شوز: شَیِزَ شَوَزاً بہ (مجہول): پر فریفتہ ہونا۔
الأشْوَز: متکبر، مغرور۔
شاس: ا۔شاسَ ۔ شَوِسَ ۔ شَوَساً: حقارت آمیز
نظر سے دیکھنا، تکبر یا غصہ کی وجہ سے کنکھیوں سے
دیکھنا، نیم وا آنکھوں سے دیکھنا۔تشاوَس تَشاوُساً:
تکبر یا غصہ کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھنا، نیم وا
آنکھوں سے دیکھنا، غرور اور نخوت کا اظہار کرنا۔
الأشْوَس: تکبر سے سر اونچا کرنے والا۔الشُوس:
لمبے آدمی۔
۲۔شاسَ ۔ و شَوِسَ ۔ شَوَساً: لڑائی میں بہت دلیر
اور منچلا ہونا۔صفت أشْوَس م شَوْساء جمع

شُوس کہتے ہیں: رُمِیَ فلانٌ بخطوب شُوس:
فلاں شخص کو سنگین صورت حالات میں پھینک دیا
گیا۔تَشاوَس تَشاوُساً: حقارت آمیز نظر سے دیکھنا
○ أشوس م شوساء جمع شُوس: مغرور، متکبر،
بہادر، دلیر، نڈر، بے باک، خطرات میں کود جانے
والا۔شُوس الحرب: جنگی ہیرو (جمع)
شوش: ا۔شَوَّشَ الأمرَ: کو خلط ملط کرنا، گڈمڈ کرنا،
کا ستیا ناس کرنا، کو درہم برہم کرنا، پریشان کرنا۔
تَشَوَّشَ علیہ الأمرُ: پر معاملہ گڑبڑ ہونا۔تشاوَش
القومُ: قوم کا بے ترتیب ہونا۔التَشواش: اختلاف،
اضطراب۔عبارۃٌ مُشَوَّشَۃ: ترکیب یا معنی میں ٹھیک
نہ ہونے والی عبارت۔
۲۔الشاش: ململ (کپڑے کا نام)۔ریشم کی چادر جس
سے پگڑی باندھی جاتی ہے (عبرانی)۔الشاشۃُ البیضاءُ
پردۂ سیمی (سینما)۔الشاشِیۃ: مراکشی فوجیوں کی
سرخ ٹوپی۔الشاویش (ا ع): سارجنٹ (sergeant)
○ شَوَّشَ ہ: کو گڈمڈ کرنا، خلط ملط کرنا، درہم برہم کرنا،
حیران و پریشان کرنا۔۔۔ ہ/علی: میں خلل ڈالنا۔
ہ: کو پیچیدہ کرنا، الجھانا، میں الجھنیں پیدا کرنا۔
تَشَوَّشَ: پریشان ہونا، گھبرایا ہوا ہونا، بوکھلانا، گڈمڈ
ہونا، ہل جل جانا، پاگل یا دیوانہ ہونا، پریشان ہونا، بیمار
ہونا، طبیعت ناساز ہونا۔شاش: ململ، سفید کپڑا۔
شاشۃ: سفید کپڑا۔الشاشۃ و الشاشۃ البیضاء:
(سینما) سکرین۔شاشِیۃ جمع شَواشِی: سر پر
پہننے کی چیز، ٹوپی۔شُوشَۃ: بالوں کا گچھا، بالوں کی
لٹ، زلف، گیسو، کلغی۔شَواش: گڑبڑ، ابتری، بے
ترتیبی، پریشانی، گھبراہٹ، بوکھلاہٹ، دماغی خلل،
ہلچل۔شَواشِیّ جمع شَواشِیۃ: ٹوپیاں بنانے
والا۔مُشَوَّش الفکر: بوکھلایا ہوا، حیران، پریشان،
چکرایا ہوا۔
شاص: ا۔شاصَ ۔ شَوْصاً و شَوَصاً: پھڑکنا۔۔۔
الجنینُ: بچہ کا ماں کے پیٹ میں لاتیں مارنا۔۔۔ بہ
العِرقُ: رگ کا حرکت کرنا، مضطرب ہونا۔۔۔ فلانٌ
بفلان: کے درمیان دشمنی ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔۔۔
شَوْصاۃً: کو جگہ سے ہلانا۔شَوِصَ ۔ شَوَصات
عینُہُ: کے پپوٹوں کا بہت پھڑکنا۔صفت أشْوَص:
جس کے پپوٹے بہت پھڑکتے ہوں۔ایسی آنکھ کو
شَوْصاء کہتے ہیں جمع شُوص ہے۔الشَوْصَۃ: رگ کی
پھڑکن۔الشِیاص: بدخلقی، بدمزاجی۔
۲۔شاصَ ۔ شَوْصاً و شَوَصاً الرجلُ: کی داڑھ
یا پیٹ میں درد ہونا۔۔۔ شَوْصاۃً: کو ہاتھ سے ملنا، کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دھونا۔ فاہُ بالسِّواك: مسواک سے منہ صاف کرنا۔
شَوَّصَ تَشْوِيصاً و أشَاصَ إشاصةَ الرَّجُلُ: مسواک کرنا۔شَوْصُ السِّواك: مسواک کا گندا پانی۔الشَّوْصَة (طب): پیٹ میں ریاحی درد۔
۳۔ شَوِصَ ۔ شَوَصَاتٌ عينُهُ: آنکھ کا اتنا موٹا ہونا کہ پپوٹے آپس میں نہ مل سکیں۔الشَّوْصَة (طب): پہلو کا ورم۔

شاط: ا۔ شَاطَ ۔ شَوْطاً به الغضبُ: غصہ بھڑکنا، اشتعال میں آنا۔۔۔ شَوِيطاً و شَوْشَطَ الطعامُ: ہانڈی کا لگ جانا (ہنڈیا کے پیندے میں پکائی جانے والی چیز کا آگ کی تیزی یا زیادہ عرصہ پکنے سے جل جانا) صفت: شَائِطٌ و مُشَوْشِطٌ (عام بول چال)۔شَوَّطَ القِدرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔۔۔ اللحمَ: گوشت پکانا۔۔۔ الصقيعُ النباتَ: سردی کا پودے کو جھلس دینا۔
۲۔شَوَّطَ: کا سفر لمبا ہونا۔تَشَوَّطَ الفرسَ: گھوڑے کو ہانک ہانک کر تھکا دینا۔الشَّوْط جمع أشْواط: منزل مقصود، منزل مقصود تک ایک دوڑ۔ کہتے ہیں: جرى الفرسُ شوطاً: گھوڑے نے ایک دوڑ لگائی
○ شَوْط جمع أشواط: گول (منزل مقصود) تک دوڑ، حالت دور (phase)، کام کا چکر (round)، کھیل جس میں بہت سے کھلاڑی شریک ہوتے ہیں۔ ہاف (half)، میدان (دوڑ کا)، گول (کھیل کا) مقصد، مدعا، نشانہ، ہدف۔قَطَعَ شَوْطاً كَبِيراً (بعيداً) في التقدم (الرقي) اور قطع في ميدانِ الرقي أشْواطاً: خوب ترقی کرنا، کافی آگے بڑھ جانا، بڑی تیز رفتاری سے ترقی کرنا۔قطع أشْواطاً شاسعة: خوب ترقی کرنا، کافی آگے بڑھ جانا، بڑی تیز رفتاری سے ترقی کرنا۔يَفُوقُهُ أشواطاً: سے کہیں آگے بڑھ جانا، سے بازی لیجانا، پر بہت سبقت لے جانا۔

شاظ: ا۔ شَاظَ ۔ شَوْظاً بفلانٍ: کو گالی دینا۔تَشَاوَظَ القومُ: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔الشُّوَاظ والشِّواظ: چیخ پکار، گالی گلوچ۔
۲۔ شَاظَ ۔ شوظاً به الغضبُ: غصہ بھڑکنا، مشتعل ہونا۔الشُّوَاظ و الشِّواظ: دھوئیں سے خالی شعلہ آگ یا سورج کی گرمی، پیاس کی شدت۔
○ شُوَاظ: شعلہ، آگ، جوش، ولولہ، تپش، شوق، شدت کی گرمی، گرمجوشی، سرگرمی، لگن، دھن، جذبہ، طیش، عشق، بے حد شوق۔

شوع: شَوِعَ يَشْوَعُ شَوَعاً الرأسُ: سر کے بالوں کا پراگندہ اور غبار آلود ہونا۔۔۔ الفرسُ: گھوڑے کے ایک رخسار کا سفید ہونا صفت أشْوَع م شوعاء جمع شُوع۔ شَوَّعَ تَشْوِيعاً القومَ: قوم کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔الشُّوع جمع شِيَاع (واحد شُوْعة) (ن): بان کا درخت۔المِشْوَاع: تنور میں آگ ہلانے کی سیخ۔ اصل میں مِشْيَاع ہے۔

شاف: ا۔ شَافَ ۔ شَوْفاهُ: کو صیقل کرنا، جلا دینا۔۔۔ الجملَ بالقطران: اونٹ پر کولتار ملنا۔ شِيفَت الجاريةُ: لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا۔شَوَّفَ الجاريةَ: لڑکی کا سنگھار کرنا، میک اپ کرنا۔تَشَوَّفَ تَشَوُّفاً: مزین ہونا، آراستہ ہونا۔الشَّوْف (مص): ہنگا، زمین کو برابر کرنے کا آلہ۔المَشُوف (مفع): مزین، آراستہ۔۔۔ من الجمال: کولتار ملا ہوا اونٹ۔
۲۔ شَافَ ۔ شَوْفاهُ: کو دیکھنا (عام بول چال)۔ شَوَّفَهُ الشيءَ: کو کوئی چیز دکھانا (عام بول چال)۔أشَافَ إشافةً عليه: کو اوپر سے جھانکنا۔۔۔ الشيءُ: چیز کا بلند ہونا۔تَشَوَّفَ تَشَوُّفاً من السطح: اوپر سے دیکھنا، جھانکنا۔۔۔ إلى الشيء: کسی چیز کی طرف جھانکنا۔۔۔ الشيءُ: چیز کا بلند ہونا۔ إشْتَافَ اشْتِيافاً اليه: کو گردن لمبی کر کے دیکھنا۔۔۔ البرقَ: بجلی کو بامید بارش دیکھنا۔الشَّيِّفَةُ و الشَّيِّفان: دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے والا ہراول دستہ۔الشَّوَّاف من الرجال: تیز نظر آدمی۔الشِّياف: آنکھوں کی دواء۔
۳۔أشَافَ إشافةً منه: سے ڈرنا، خوف کھانا۔
۴۔ إشْتَافَ و اسْتَشَافَ الجرحُ: زخم کا سخت ہونا۔
○ شَوَّفَ ہ: کو رگڑ کر صاف کرنا، چمکانا۔۔۔ ها: (عورت) کو آراستہ کرنا، سجانا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا۔ تَشَوَّفَ إلى: کی امید کرنا، کی توقع کرنا، پیش بندی کرنا۔شُوف: سہاگہ، میڑا، ہنگا۔الشُّوف: لبنان کے ایک انتظامی ضلع کا نام۔شُوفة: منظر، نظارہ۔شُوفان: جئی (oats)۔

شاق: ا۔ شاقني ۔ شَوْقاً و تَشْوَاقاً الحبُّ اليه: مجھے کا شوق دلانا۔صفت مفعولی: مَشُوقٌ صفت فاعلی شائِق۔شَوَّقَهُ إليه: کو کے شوق پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔أشَاقَ إشاقةً هُ: کو خواہش ابھارنے والا پانا۔تَشَوَّقَ الشيءَ و اليه: کا بہت شوق ظاہر کرنا۔اِشْتَاقَهُ و اِشْتَاقَ اليه: کی بہت خواہش کرنا، کا مشتاق ہونا۔الشَّوق (مص) جمع أشْواق: خواہش [illegible] آرزو یا [illegible] عُشَّاق۔الشَّيِّق: مشتاق۔کہتے ہیں قلبٌ شَيِّقٌ: مشتاق دل۔
۲۔ شاقَ ۔ شَوْقاً و تَشْوَاقاً القربةَ: مشک کو دیوار کے ساتھ کھڑی کرنا صفت مفعولی مَشُوقَةٌ۔ الطُّنُبَ إلى الوتد: خیمہ کی رسی کو کھونٹے سے باندھنا۔الشِّيَاق و الشِّيق: وہ چیز جس سے کسی چیز کو کھینچ کر دوسری چیز سے باندھیں جیسے خیمہ کی رسیاں۔
۳۔الرجلُ الأشْوَق جمع شُوق: بلند قامت آدمی۔ قومٌ شُوقٌ: لمبے تڑنگے لوگ۔
○ شَاقَ ۔ شَوْقاه: کو پسند آنا، بہت اچھا لگنا، کو خوش کرنا، کو مسرور، شاد یا محظوظ کرنا، میں بڑی خواہش، سخت آرزو، طلب، حسرت، تمنا برانگیخت کرنا، ابھارنا، کو بڑی خواہش، سخت آرزو، طلب، تمنا سے بھر دینا۔ شَوَّقَ ہ: کو بڑی خواہش سخت آرزو، طلب تمنا حسرت سے بھر دینا، میں بڑی خواہش سخت آرزو، طلب، تمنا حسرت ابھارنا۔تَشَوَّقَ و اشتاق ہ/ ہ/ إلى: کا آرزو مند ہونا، متمنی ہونا، مشتاق ہونا، کی آرزو ہونا، کی آرزو میں مرنا۔۔۔ ہ/إلى: کا آرزو مند ہونا، کا لالچ یا حرص یا طمع کرنا، کے لئے کی سرگرم خواہش یا تمنا ہونا، چاہت ہونا۔شَائِق: بڑی خواہش برانگیخت کرنے والا، خواہش ابھارنے والا، خواہش کا محرک یا اس میں ہیجان پیدا کرنے والا: چمکیلا، درخشاں، تابندہ، شاندار، عظیم الشان، خوبصورت۔مشتاق: مشتاق، خواہش مند، خواہاں، خواستگار، شائق، طالب۔ مُشَوِّق: خواہش، حسرت تمنا آرزو ابھارنے والا، سنسنی خیز، ہیجان خیز، برانگیختہ کرنیوالا، مشتعل کرنے والا، دل موہ لینے والا، گرویدہ کرنے والا، جاذب نظر، دل کش، دل آویز، پرجوش، خیال آفرین، ہیجان خیز، پرجوش، دل کش، دلچسپ۔مُشَوَّق إلى: کی سخت خواہش یا آرزو سے مملو، کا خواہاں، خواستگار، شائق، طالب، کا لالچی، حریص۔

شاك: ا۔ شَاكَ ۔ شَوْكاهُ: کو کانٹا چبھونا۔۔۔ لَحْيَا البعيرِ: اونٹ کا لمبے دانتوں والا ہونا۔۔۔ ثديُ الجاريةِ: لڑکی کے پستان نمودار ہونا، نکلنے لگنا۔۔۔ تهُ الشوكةُ: کو کانٹا چبھنا۔۔۔ ۔ شَاكَةً و شِيكَةً: کانٹوں میں جا پڑنا۔۔۔ الشوكَ: کانٹوں میں جا پڑنا۔۔۔ هُ بالشوكةِ: کو کانٹا چبھونا۔شِيكَ: جس کو کانٹا چبھا ہو۔شَوَّكَ الشجرُ: درخت کا کانٹے دار ہونا، درخت پر کانٹے نکلنا۔۔۔ الحائطَ: دیوار پر کانٹے رکھنا۔۔۔ الفرخُ: چوزے کا پر نکالنا۔۔۔ شاربُ الغلام: لڑکے کی مونچھوں کا سخت ہونا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الرأسَ بعد الحلق: سرمنڈانے کے بعد پھرنئے بال اُگنا۔أَشَاكَ هُ: کوکانٹا چبھونا۔أَشْوَكَ المكانُ: جگہ کا کانٹوں والی ہونا ــــ ت الشجرةُ: درخت کا خاردار یا بہت کانٹوں والا ہونا صفت مُشْوِكة۔ الشَوْكُ جمع أَشْوَاك واحد شَوْكَة (ن): کانٹا۔شَوْكُ الدُرَّاج (ن): ایک خاردار پودا، جسے کچل کر جانوروں کو بطور چارا دیا جاتا ہے۔الشوكة: شوک کا واحد، ایک کانٹا، بچھو کا ڈنک (ز) زراعت کا ایک اوزار (جیلی ڈنگی، دوشاخہ) چھری کانٹا (کھانے میں)۔ اسے فرتیکہ بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ اطالوی زبان کا ہے۔ريحُ الشَوْكَة (طب): ہاتھ کے انگوٹھے میں نکلنے والی پھنسی۔ عام لوگ اسے دوحاس کہتے ہیں۔شوكةُ الحائك: جولاہے کا تانا بانا برابر کرنے کا آلہ۔الشائك جمع شَاكَة و الشَوِك: کانٹے دار، خاردار۔ارضٌ او شجرةٌ شَاكَةٌ: بہت کانٹوں والی زمین یا درخت۔

۲۔ شَاكَ ـ شَوْكًا: کی شوکت اور تیزی ظاہر ہونا۔ شَائِكُ و شوِكُ السلاح: اسلحہ میں شوکت اور تیزی کا مالک۔ اسے شاكَ السلاح و شاكُ السلاح اور شاكی السلاح بھی کہتے ہیں۔ الشوكة: طاقت اور جنگ، ہتھیار اور اس کی تیزی، دشمن کو ایذا دہی۔ کہتے ہیں لاتشوكك منی شوكةٌ: تم کو میری طرف سے کوئی ایذا نہیں پہنچے گی۔الأَشْوَكُ م شَوْكَاء من الثياب و نحوها: کھردرا کپڑا وغیرہ۔

۳۔شِيكَ الجسدُ: جسم پر سرخ پھنسیاں ہونا صفت: مَشُوك۔ الشَوْكَة: سرخ پھنسی ــ المباركةُ و الشوكة اليهودية و الشوكة البيضاء: جڑی بوٹیوں کے نام ہیں جو علاج میں استعمال کی جاتی ہیں۔

۴۔الشوكران: ایک زہریلا پودا۔شیکران (poison hemlock)۔

◌ شَاكَ ـ شوكًا هُ ب: کوکانٹا سوئی وغیرہ چبھونا، یا کانٹے سوئی وغیرہ سے تکلیف دینا۔شَوَّكَ: خاردار ہونا ــ ه: کوکانٹوں وغیرہ سے جڑنا بھرنا ــ ه ب: کوکانٹا سوئی وغیرہ چبھونا، کوکانٹے سوئی وغیرہ سے تکلیف دینا۔على الشَوْكِ: خلجان میں، مخمصے میں۔شَوِك: خاردار۔شائِك: خاردار، نازک، زود حس، پیچیدہ مشکل تشویشناک۔سِلكٌ شائِكٌ جمع اسلاك شائكة: خاردار تار۔

الشكولاته: چاکلیٹ۔(المنجد میں) الشُوكولاتا۔

شال: ا۔شَالَ ـ شولاً و شَوَلانًا الذَنَبُ وغيرُهُ: دم وغیرہ کا بلند ہونا ــــ الشيءَ و بالشيء: کو اٹھانا، بلند کرنا ــــ الميزانُ: ترازو کے ایک پلڑے کا اٹھ جانا ــــ ت القِربة او الزقُّ: بھرنے پر یا پھونکنے پر مشک کی ٹانگوں کا اٹھ جانا۔شاوَلَ الحجرَ: پتھر اٹھانا۔أَشَالَ الشيءَ: کو بلند کرنا، اٹھانا۔ إشتَالَ اشتيالاً: بلند ہونا۔ إنشال انْشِيالاً: بلند ہونا۔استَشَالَتِ الناقةُ ذَنَبَها: اونٹنی کا اپنی دم اٹھانا۔الشَولَة: اسم مرة، ایک بار کا اٹھانا، بچھو کی اٹھی ہوئی دم۔شَوْلَةُ و شَوَّالَةُ: بچھو کا اسم علم۔الشَال جمع شِيلان و شالات: بڑی چادر جو کندھوں پر ڈالتے ہیں۔الشالة: اس سے اخص ہے (فارسی)۔ الناقةُ الشائِل جمع شُوَّال و شوَّال و شُيَّل و شِيَّل: مستی کے وقت دم اٹھانے والی اونٹنی اور دودھ نہ دینے والی اونٹنی۔الشائِلة جمع شَوْل و أشوَال و شَوَائِل: شائل کا مونث۔شوّال جمع شَوَّالات و جج شَوَاوِيل: قمری سال کا دسواں مہینہ جو رمضان اور ذی قعدہ کے درمیان آتا ہے۔ اس کے ۲۹ دن ہوتے ہیں۔شوال۔المِشْوَال: (زور آزمائی کے لئے) اٹھایا جانے والا پتھر۔

۲۔شال ـ شُلاً و شَوَلانًا ت نعامتُهُ: کسی کا ناراض ہوکر پرامن ہوجانا۔مرنا ــ ت نعامةُ القوم: قوم کا اپنے مکانوں کو خالی کرجانا اور متفرق ہوجانا یا ان کا اتحاد ٹوٹ جانا اور ان کی عزت کا جاتا رہنا۔شَوَّلَ تَشْوِيلاً لبنُ الناقةِ: اونٹنی کا دودھ گھٹ جانا ــ ت النوقُ: اونٹنیوں کا دودھ خشک ہوجانا ــ الماءُ: پانی کم ہوجانا ــ ت المزادةُ: توشہ دان میں باقی ماندہ پانی کا کم ہوجانا ــــ في المزادة: توشہ دان میں تھوڑا سا پانی باقی رکھنا۔الشَوْل (مص) جمع أَشْوَال: ہلکا، سبک، ڈول وغیرہ کا بچا ہوا پانی، تھوڑا سا پانی۔ الشَوِل: کام اور خدمت میں چست۔الشَائِلَة من الإبل جمع شَوْل و أَشوال و شَوَائِل: وہ اونٹنی جس کے حمل یا وضع حمل کو سات ماہ گزر گئے ہوں اور اس کا دودھ خشک ہوگیا ہو۔

۳۔شَاوَلَ هُ و به: کو ہٹانا ــــ و تشاوَلَ القومُ بالرماح: ایک دوسرے پر نیزوں سے حملہ کرنا۔اِشتال اشْتيالاً له: کی مخالفت کرنا اور اس کو گالی دینا۔

۴۔الشَوْلَة من النساء: بیوقوف عورت۔الشَوَّالَة: چغل خور عورت۔الشِوَال (عند العامة): بالوں یا اون کا بڑا بورا۔(جوالق کی تحریف) المِشْوَل: چھوٹی درانتی۔

◌ شَلَ ـ شَوْلاً: اٹھنا، بلند ہونا۔ ه/ب: کو اٹھانا، اونچا کرنا، کو لیجانا۔شالت نَعامتُه: وہ دور چلا گیا، روانہ ہوا، فوت ہوگیا، مرگیا۔شَوَّلَ: چھدرا ہوجانا، کمیاب ہونا، کم رہ جانا۔شَاوَلَ هُ: پر حملہ کرنا، حملہ آور ہونا۔أَشْوَلَ ه: کو اٹھانا، لیجانا۔شَوِل: تیز، چالاک، ہوشیار، مستعد، شاطر، چست، پھرتیلا (کام میں)۔ مَشَال: اٹھا کر لیجانا، ڈھونا، بار برداری، حمالی، ڈھلوائی، خرچہ بار برداری، ترسیل، نقل و حمل۔ شُوَال جمع شِوَالات: (بڑا) بورا۔شال جمع شِيلان: شال (shawl)۔

شان: ا۔ شَانَ ـ شَونًا الرؤوسَ: دماغ کے کیڑے نکالنے کیلئے سر کھولنا۔تَشَوَّنَ: کم عقل ہونا۔الشَوْنَةُ: بیوقوف عورت۔الشُونَة جمع شَوان: غلے کا گودام، سمندری جنگی جہاز۔الشَوَّان: غلہ جمع کرنے والا۔

◌ شَوَّنَ ه: (کسی چیز خصوصاً غلہ کا) ذخیرہ کرنا، جمع کرنا۔ شُونَة جمع شُونات و شُوَن: گودام، غلہ کی کوٹھی، چھپر، باڑا، کوٹھا۔

۲۔الشُونيز (ن): دیکھو شنز، کلونجی۔

شاه: ا۔ شَاهَ ـ شَوْهًا و شَوْهَةً الوجهُ: چہرہ کا قبیح ہونا۔شَوِهَ يَشْوَهُ شَوَهًا الوجهُ: چہرے کا بدصورت ہونا۔شَوَّهَ اللّٰهُ وجهَه: اللہ کا کسی کے چہرے کو بدشکل بنانا۔تَشَوَّهَ: بدشکل ہونا ــ لِفُلان: اپنے آپ کو کسی کے لئے ناشناسا اور بدصورت بنانا۔ الشَوَه (مص): بدشکلی، خوبصورتی (ضد)۔الشُوهَة: بدصورتی۔الشَوْهاءُ: بدمزاج عورت، بدشکل عورت، خوبصورت عورت (ضد)۔المُشَوَّه: بدشکل، ناموافق اجزاء والا۔

۲۔ شَاهَ ـ شَوْهًا و شوهَةً الرجُلَ: سے حسد کرنا، کو نظر لگانا۔ کہتے ہیں: شاهت نفسُه إلى كذا: کالالچ کرنا، کی طمع کرنا، کی آرزو کرنا، تمنا کرنا۔ تَشَوَّهَ لِفلان: نظر لگانے کے لئے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ کہتے ہیں: هو يتَشَوَّهُ اموال الناس ليصيبها بالعين: یعنی وہ نظر لگانے کے لئے لوگوں کے مالوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ نیز کہتے ہیں لا تُشِوّه عليَّ: یعنی یہ نہ کہہ تو کتنا خوبصورت ہے تاکہ مجھے نظر لگائے۔الشَائِه (فا) جمع شُوَّه: حاسد، نظر لگانے والا، تیز نظر۔رجُلٌ شاهُ البصر و شاهي البصر: تیز نظر آدمی۔الأَشْوَه م شَوْهاء جمع شُوْه: جلد نظر بدلگانے والا۔الشَوْهَاء: منحوس عورت۔فرسٌ شوهاء: تیز نظر گھوڑا۔

۳۔شَاهَ ـ شَوْهًا و شَوْهَةً الرجُلَ: کو خوفزدہ کرنا۔

۴۔شَوِهَ يَشْوَهُ شَوَهًا ت العنقُ: گردن کا لمبا ہونا، چھوٹا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہونا (ضد)۔الشَّوَہ: گردن کی لمبائی اور بلندی، سر اٹھانا۔الأَشْوَہ م شَوْهاء جمع شُوْہٌ: دراز گردن والا، متکبر۔

۵۔تَشَوَّہَ الرجلُ شاةً: بکری کو شکار کرنا۔الشاة (ح): غنم کا واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے آتا ہے۔ج شاءٌ و شِیاہٌ و شِواہٌ و أَشاوِہ و شِیہٌ و شِیَہٌ و شَوِیٌّ۔ اور شاة کا اسم مُصَغَّر شُوَیَّة و شُوَیْهَة جمع شُوَیْهات۔ نسبت کے لئے کہا جاتا ہے: شاوِیّ: بکرا، بکری۔الشاهِی: بکریوں والا۔ ارضٌ مَشاهَةٌ: بہت بکریوں والی زمین۔

۶۔الشُّوْهَة: دوری۔الشاہ: بادشاہ نسبت شاهی و شاهانی (فارسی): بادشاہ کا، بادشاہ کے متعلق۔ شاهان شاہ: شہنشاہ (فارسی)۔الشاہ بلّوط (ن): کستنہ کا درخت (فارسی)۔شاہُ بَنْدَر: تاجروں کا سردار، رئیس التجار (فارسی)۔الشاهترج (ن): ایک پودا جو باغوں اور راستوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے اور بیج خارش اور کھجلی کے علاج کے کام آتے ہیں۔

○ شَوِہَ - شَوَهًا و شاہَ - شَوْهًا: بدشکل ہونا یا ہو جانا، بدنما ہونا، بدصورت ہونا یا ہو جانا، حلیہ بگڑنا۔شَوَّہَ ہُ: کی شکل بگاڑنا، کا حلیہ بگاڑنا، کے ہاتھ پیر کاٹنا، کو بدنام کرنا، پر افتراء کرنا، بہتان باندھنا، کو گالیاں دینا۔ شَوَّہَ الاذاعةَ: نشریہ جام کردینا۔شَوَّہَ وجهَ الحقیقة: حقیقت کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا۔شَوَّہَ وجهَ وظیفتِه: اپنے پیشہ کی ذلت کا موجب ہونا۔ تَشَوَّہَ بمعنی شَوِہَ و شاہَ۔ شَوَہ: بدشکلی، خِلقت میں خرابی و نقص، بدنمائی، بدصورتی، شکل بگاڑنا، بے راہ روی، کج روی۔اَشْوَہ م شَوْهاء جمع شُوْہ: بدشکل، بدصورت، بگڑی ہوئی شکل والا، خلقت میں خرابی والا، بدہیئت، کج رو، بے راہ روشانہ: بمعنی أَشْوَہ۔ مُشَوَّہ: بدشکل، بدصورت، بگڑی ہوئی شکل والا، ہاتھ پاؤں کٹا ہوا، بے راہرو، کج رو۔ مُشَوَّہُ الحرب: جنگی معذور (جو جنگ میں معذور ہو گیا ہو)، معذور، تجربہ کار۔تَشْوِیہ: ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، بدشکل بنا دینا، رسوائی، بدنامی، ہتک عزت، لنگڑا لولا کر دینا۔

شوی: ۱۔شَوَی - شَیًّا اللحمَ: گوشت کو آگ پر بھونا صفت مفعول مَشْوِیّ۔ الماءَ: پانی گرم کرنا۔شَوَّی القومَ: لوگوں کو بھنا ہوا گوشت کھلانا۔ أَشْوَی القومَ: لوگوں کو بھنا ہوا گوشت کھلانا۔ السَّعَفُ: درخت خرما کی شاخ زرد ہو کر سوکھ جانا۔ اسی سے ہے ما أَعیاہُ و ما أَشْواہُ: وہ کس قدر کمزور ہے۔ الزرعُ: بھوننے کے لائق ہونا۔ اِشْتَوَی اِشْتِواءً: بھن جانا۔ الرجلُ: بھونا ہوا گوشت وغیرہ لینا۔ اِنْشَوَی اِنْشِواءً: بھننا۔الشِّواء والشُّواء: بھنا ہوا گوشت وغیرہ۔ والشِّواءة والشُّواءة و الشَّواة: بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا۔ الشَّوّاء: گوشت بھوننے والا۔الشَّوِیّ: بھنا ہوا گوشت۔ سَعَفَةٌ شاوِیَةٌ: درخت خرما کی سوکھی ہوئی شاخ۔المِشْواة جمع مَشاوٍ: گوشت بھوننے کا آلہ، گوشت بھوننے کی سیخ، کڑاہی۔

۲۔شَوَّی و أَشْوَی الرجلَ: آدمی کے ہاتھوں، ٹانگوں اور پہلوؤں کو زخمی کرنا، جس سے موت واقع نہ ہو۔ السهمُ: تیر کا نشانہ خطا کرنا۔الشَّوَی: اعضاء جسمانی جن کا زخم مہلک نہ ہو، ہاتھ، ٹانگیں، پہلو، آسان کام۔ والشَّواة: کھوپڑی اور اس کی کھال، کاسہء سر اور اس کی چمڑی۔

۳۔أَشْوَی الرجلُ: گھٹیا مال خریدنا۔الشَّوَی: گھٹیا مال۔الشُّوابة و الشَّوایة و الشِّوایة و الشَّوِیَّة من المال: ردی مال۔

۴۔أَشْوَی الرجلُ: رات کے کھانے سے کچھ چھوڑ دینا۔ الشُّوایة و الشَّوایة و الشِّوایة و الشَّوِیَّة جمع شَوایا: ہلاک شدہ قوم یا مال کا بقیہ۔

۵۔الشَّوایا (واحد شاوِیَة): دامن کوہ میں ہموار میدان

○ شَوَی - شَیًّا ہ: گوشت بھونا، کباب کرنا۔شِواء و شُواء: بھنا ہوا، کباب کیا ہوا گوشت وغیرہ۔شَوِیّ: بھنا ہوا، کباب کیا ہوا۔شَواة جمع شَوًی: کھوپڑی کی کھال، چندیا۔شَوّایة: کباب، سیخ، کباب کا برتن۔مِشْواة: سیخ، کباب بنانے کا برتن۔

شاء: ۱۔شاءَ - شَیْئًا و مَشِیئَةً و مَشاءَةً و مَشائِیَةً ہُ: کا ارادہ کرنا، کو چاہنا صفت فاعل شاءٍ: صفت مفعول: مَشِیءٌ۔ اللّٰهُ الشیءَ: اللہ کا کسی چیز کو مقدر کرنا۔ تعجب کے موقعے پر کہتے ہیں: ما شاء اللّٰه۔ الشِّیئَة: شاء کا اسم۔ والمَشِیئَة: ارادہ، چاہنا۔ کہا جاتا ہے کلُّ شیءٍ بشیئةِ اللّٰه: ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتی ہے۔

۲۔شَیَّأَہُ علی الامر: کسی کو کسی کام پر اکسانا، ابھارنا۔ أَشاءَ إِشاءَةً ہُ: کو مجبور کرنا۔

۳۔شَیَّأَ اللّٰهُ وَجهَهُ: اللہ کا کسی کو سیاہ رو کرنا۔المُشَیَّأ: بدشکل، ناہموار جسم کی ساخت والا۔

۴۔تَشَیَّأَ تَشَیُّؤًا: کا غصہ ٹھنڈا ہونا۔

۵۔[illegible]

أَشْیاوات و أَشاوات و اشایا تصغیر شُیَیْءٌ و شِیَیْءٌ: چیز، جو چیز جانی پہچانی جائے اور اس کی خبر دی جا سکے۔اشیاء: غیر منصرف ہے۔

○ شاءَ - مَشِیئَةً: چاہنا۔ ہ/أن: کی خواہش کرنا، خواہش کرنا کہا ن شاء اللّٰه: اگر اللہ نے چاہا، امید ہے کہ مجھے یا ہمیں ایسی امید ہے۔ما شاء اللّٰهُ: جو کچھ، جیسا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، حیرت انگیز! صحیح ہے۔ خوب شاباش مرحبا۔الی ما شاء اللّٰه: ہمیشہ ہمیشہ کے لئے۔لَفَّقَ ماشاء له التلفیقُ: اس نے انتہائی شرمناک جھوٹ گھڑے۔شیء: چیز، کوئی چیز۔شیءٌ من: کچھ، بہت شیء من النشاط: کچھ سرگرمی۔شیءٌ من القلق: کچھ بے چینی، کچھ پریشانی۔بدون شیءٍ من الجهد: بغیر کسی مطلق کوشش کے۔هذا شیءٌ و ذاك شیءٌ آخر: یہ اور وہ دونوں یکسر مختلف چیزیں یا باتیں یا معاملے ہیں۔فی الامر شیءٌ: کوئی نہ کوئی بات ضرور غلط ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات مزا کرکرا کرنے والی ہے۔ بعض الشیء: کسی قدر، ایک حد تک، کچھ۔ فی شیءٍ اور بشیءٍ: (انکار پرمبنی جملوں میں) کسی طرح نہیں، کسی بات میں بھی نہیں، ہرگز نہیں، کسی صورت بھی نہیں نہیں، قطعاً نہیں۔علی شیءٍ کثیرٍ من: بہت جیسے۔علی شیءٍ کثیرٍ من البساطة: بہت سادہ۔الشیءُ الکثیر: سب سے زیادہ اکثر۔ أَشْبَهُ شیءٍ ب: کے بہت زیادہ مانند، بالکل اس جیسا۔شیئًا بعد شیءٍ یا شیئًا فشیئًا: ذرا ذرا کرکے، آہستہ آہستہ، یکے بعد دیگرے، بتدریج۔ لاشیء: کچھ نہیں، ذرا بھی نہیں، مطلق نہیں، بالکل نہیں، صفر، معدوم شے، معدوم۔لیس بشیءٍ: یہ کچھ نہیں، یہ کوئی اہم بات نہیں۔لیس هذا فی شیءٍ من ذلك: اس کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔شُیَیْئی: واقعیت پسندانہ، واقعاتی۔شُوَیَّة: کسی حد تک کچھ۔

شاب: ۱۔شابَ - شَیْبًا و شَیْبَةً و مَشِیبًا: سفید بالوں والا ہونا۔صفت أَشْیَب و شاءِب م شائبة (شَیْباء نہیں مگر شمطاء بھی کہا جاتا ہے)۔ کہتے ہیں: شابت رؤوس الآکام: ٹیلوں کی چوٹیاں برف سے سفید ہو گئیں۔شَیَّبَ الحزنُ فلانًا و بفلان: غم کا کسی کو بوڑھا کر دینا۔أَشابَ الحزنُ فلانًا و بفلان: غم کا کسی کو بوڑھا کر دینا۔ الرجلُ: بوڑھی اولاد والا ہونا۔الأَشْیَب جمع شِیب و شُیُب: سفید سر والا۔ من الایّام: ابر آلود اور برف باری کا دن۔الشِّیب: برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ۔المَشایِب

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(فا) م شَائِبَة جمع شُيَّب: سفید بالوں والا۔ مبالغہ کے طور پر شیبٌ شَائِب کہا جاتا ہے۔شَيْبَان و شِيْبَان: ماہ دسمبر۔یومٌ شَيْبَانُ: بادل برف اور سردی والا دن۔الشَّبْبَة: اسم مرة۔شاب کا اسم۔

۲۔الشِّيب (ح): بھیڑیئے سے بجو کا بچہ۔

○ شاب – شَيْبًا و شَيْبَةً و مَشِيبًا: سفید بالوں والا ہوجانا، خاکستری رنگ والا ہوجانا، (بالوں کا) سفید یا خاکستری ہوجانا، بوڑھا ہوجانا، ـــ سفید بالوں والا بنانا۔ ـ ہ: کا رنگ اڑا دینا۔شَيَّبَ ہ: کو سفید بالوں والا بنا دینا، (غم وغیرہ کا) کسی کے بالوں کو سفید کر دینا۔ شَيْب: بالوں کا خاکستری رنگ، خاکستری یا سفید بال، بڑھاپا۔ أَشْيَب م شَيْبَاء جمع شِيْب: سفید، خاکستری (بال) سفید بالوں والا، خاکستری بالوں والا (شخص) بوڑھا، بوڑھا شخص۔مَشِيب: بالوں کا خاکستری رنگ، سفید یا خاکستری بال، بڑھاپا۔ شَائِب: سفید، خاکستری (بال): سفید یا خاکستری رنگ کے بالوں والا (شخص)، بوڑھا، بوڑھا شخص۔

شاح ۱۔ شَاحَ – شَيْحًا علی حاجته: چوکنا رہنا، چوکس ہونا۔شَيَّحَ ہُ: کو ڈرانا۔ ـ خصمَهُ: دشمن کو تنگ نگاہوں سے دیکھنا۔أَشَاحَ إشَاحَةً فی امره: میں چوکنا ہونا یا رہنا۔ ـ وجهَه و بوجهِهِ و ـ عنه وجهَهُ: سے کراہت کے ساتھ منہ پھیر لینا۔الشِّيح من الرجال: چوکنا محتاط، چوکس۔الشِّيَاح: ڈر۔ الشَّيْحَان و الشِّيحَان و المُشِيح: غیرت مند، ہوشیار۔

۲۔ شَاحَ – شَيْحًا علی حاجته: کوشش کرنا۔أَشَاحَ إشَاحَةً فی امره: میں کوشش کرنا۔شَايَحَ مُشَايَحَةً و شِيَاحًا: لڑنا، جنگ کرنا ـ فی الامر: میں کوشش کرنا۔الشِّيح من الرجال: کاموں میں کوشش کرنے والا۔الشِّيَاح (مص): کوشش۔

۳۔أَشَاحَ إشَاحَةً المكانُ: کسی جگہ کا شیح نامی گھاس پیدا کرنا۔الشِّيح واحد شِيحَة (ن): گھاس کی ایک قسم جسے مویشی چرتے ہیں، خوشبودار پودا۔

۴۔أَشَاحَ إشَاحَةً الفرس بذَنَبه: گھوڑے کا اپنی دم کو ڈھیلا چھوڑنا۔

۵۔الشِّيَاح: قحط۔الشَّيْحَان و الشِّيحَان و المُشِيح: طویل، لمبا، دراز۔

○ شَيَّحَ ہ: کو خشک کرنا ـ بوجهه اوبعينه عن: سے اپنا منہ یا آنکھیں پھیر لینا، ہٹالینا۔شَيَّاح: بلاٹنگ پیپر، سیاہی چوس۔شِيح: افسنتین کی مشرقی قسم۔

شاخ: ۱۔ شَاخَ – شَيْخًا و شِيُوخَةً و شُيُوخَةً و شِيُوخِيَّةً و شُيُوخِيَّةً و شَيْخُوخَةً و شَيْخُوخِيَّةً: بوڑھا ہونا۔شَيَّخَ: بوڑھا ہونا ـ ہُ: تعظیم کے لئے کسی کو شیخ کہہ کر بلانا، یا شیخ کہنا۔تَشَيَّخَ: بوڑھا ہونا۔ الشَّيْخ جمع شُيُوخ و شِيُوخ و أَشْيَاخ و شِيْخَة و شِيَخَة و شِيخَان و مَشْيَخَة و مَشِيخَة و جمع الجمع مَشَايخ و اشاييخ م شَيْخَة تصغير شِيَيْخ و شُيَيْخ: بوڑھا، بڑی عمر کا۔ امراء و مقدموں سے چھوٹے درجے کے معززین کا لقب، استاد، عالم، قوم کا سردار، کسی صنعت کا بڑا شخص یا ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں علم، فضیلت اور مرتبہ و درجہ وغیرہ کے لحاظ سے بڑا ہو۔ شیخ المرأة: عورت کا شوہر۔الشَّيْخُون: بوڑھا۔

۲۔شَيَّخَ علیه: پر عیب لگانا، طعن و تشنیع کرنا ـ به: کو رسوا کرنا۔

۳۔شیخ النار: ابلیس سے کنایہ ہے۔الشَّيْخِيَة: ایک پھولدار پودا جو کھیتوں اور راستوں کے کناروں پر اُگتا ہے۔

○ شیخ جمع شیوخ وغیرہ: بوڑھا، معزز شخص، سردار، شیخ، بزرگ، سردار قبیلہ، خلیج فارس کے ساحل پر ریاستوں میں سے ہر ریاست کا حاکم، استاد، بڑا، عظیم، سینئر۔شیخ البحر: ویل مچھلی کا بچہ۔شیخ البلد: گاؤں کا چوہدری۔شیخ السجّادہ: سجادہ نشین۔شیخ الاسلام: مفتی اعظم کا لقب۔شیخ المدینة: پولس انسپکٹر۔مشیخة الجامع الاعظم: تونس میں جامع اعظم یونیورسٹی کی پروفیسری یا پروفیسر صاحبان، یا اس یونیورسٹی کا ایک شعبہ۔ مجلس الشیوخ: سینیٹ (Senate)۔شیخة جمع شیخات: میٹرن (matron)۔شِيَاخَة: شیخ کا منصب، یا مرتبہ۔شَيْخُوخَة: بڑھاپا، ضعیفی، سٹھیا جانا۔شیخوخی: بڑھاپے کا، ضعیفی کا، سٹھیا جانا۔شیخوخی: بڑھاپے کا، ضعیفی کا، سٹھیا ہوا، بڑھاپے کی خصوصیت۔مَشْيَخَة جمع مَشيخات و مَشَايخ: شیخ کا منصب یا مرتبہ، خلیج فارس کے ساحل پر آزاد علاقوں میں سے ہر ایک آزاد علاقہ، تیونس کا انتظامی ضلع۔ (یونیورسٹی کے پروفیسر، یا اس کی پروفیسری یا شعبہ)۔

شاد. ۱۔ شَادَ – شَيْدًا البناءَ: عمارت بلند کرنا۔شَيَّدَ البناءَ: عمارت کو بلند کرنا۔أَشَادَ بذكره: کی تعریف کرکے شہرت دینا ـ علیه قبيحًا و بقبيح: کسی کو برائی سے مشہور کرنا، بدنام کرنا ـ علیه: کسی کے بارے میں برائی کو شہرت دینا ـ المغنّی: گانے والے کا بلند آواز سے گانا ـ صوته و بصوته: اونچی آواز میں برائی بیان کرنا جو نیم مذمت ہے ـ الضالّةَ: گمشدہ چیز کی وضاحت کرنا ـ البنیانَ: عمارت کو لمبا کرنا۔المَشِيد و المشَيَّد: بلند و بالا۔

۲۔ شَادَ – شَيْدًا و شَيَّدَ الحائطَ: دیوار پر چونے کا پلستر کرنا ـ جلدَه بالطيب: جسم پر خوشبو ملنا ـ الشِّيد: گچ وغیرہ کا پلستر۔المَشِيد (مفع): پلستر شدہ۔

۳۔ شَادَ – شَيْدًا الرجلُ: آدمی کا ہلاک ہوجانا۔أَشَادَ إشَادَةً ہُ: کو ہلاک کر دینا۔

۴۔ شاد – شِيَادًا الإبلَ: اونٹوں کو بلانا۔

○ شَادَ – شَيْدًا ہ: (عمارت وغیرہ) کھڑی کرنا، تعمیر کرنا، قائم کرنا، بنانا۔شَيَّدَ ہ: بمعنی شَادَهُ۔ أشاد: بمعنی شاد۔ أشاد به یا بذكره: کی تعریف کرنا، شہرت کرنا، حمد کرنا، حمد و ثنا کرنا، کو خراج تحسین پیش کرنا۔ شِيد: (دیوار کا) پلستر، پلاسٹر آف پیرس، چونا، گارا۔ تَشْيِيد: کھڑا کرنا، قائم کرنا، تعمیر کرنا، بنانا (عمارت وغیرہ) تعمیر۔ إشادة (ب): کی تعریف، سفارش، تعریف کے پل باندھنا، سراہنا۔ مُشَيَّد: بلند و بالا، اونچی شاندار، رعب دار مرعب کن (عمارت)۔

شیر: الشِّيُر عند العامة: گرنے کو تیار بڑی چٹان۔ اسے مسّار بھی کہتے ہیں۔ (دونوں سریانی لفظ ہیں)۔

شیز: شَيَّزَ البُردَ: چادر پر سرخ دھاری ڈالنا۔الشِّيز و الشِّيزَى: سیاہ اور بہت سخت لکڑی یا آبنوس کی لکڑی۔ کہتے ہیں فلان يملأ الشِّيزى: فلاں شخص آبنوس کی لکڑی کا بنا ہوا کشکول کھانے سے بھر دیتا ہے، سخاوت سے کنایہ ہے۔

شاش: أَشَاشَت النخلةُ: درخت خرما کا نرم گٹھلی کی کھجور والا ہونا۔الشِّيش: نرم گٹھلی کی کھجور۔عام لوگ گوشت بھوننے کی لوہے کی سیخ کو کہتے ہیں۔ الشِّيشَة: حقہ۔

○ شِيش: نیچہ، کٹاری، گتکا۔معلمُ الشيش: تیغ زنی، شمشیر زنی، پٹے بازی سکھانے والا۔ لعبةُ الشِّيش: تیغ زنی، شمشیر زنی، پٹے بازی، شمشیر بازی۔ شيشة: نارغیلی کی بوتل، نارغیله: حقہ۔

شاص: ۱۔شَيَّصَ القومَ: قوم کو ایذائیں پہنچا کر سزا دینا۔الشِّيَاص: بدمزاجی۔المُشَايَصَة: دشمنی، منافرت۔

۲۔شَيَّصَت النخلةُ: درخت خرما کا ردی کھجور لانا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

أشاص ت النخلةُ درخت خرما کا ردّی کھجور لانا۔ الشِیص ردی کھجور۔الشِیصاء واحد شِیصاءَ ۃ: نرم گٹھلی کی کھجور۔

۳۔الشِیص (واحد شیصۃ) (ح) ایک قسم کی مچھلی۔

شاط ۱۔ شَاطَ – شَیْطاً و شِیَاطَۃً و شَیْطُوطَۃً الشیءُ چیز کا جلنا۔۔۔ ت القدرُ ہانڈی کی تہہ میں پکی ہوئی چیز کا جل کر لگ جانا۔۔۔ الزیتُ تیل کا گاڑھا ہو کر جلنے کے قریب ہونا۔شَیَّطَ و أَشَاطَ الصقیعُ النبتَ او الدواءُ الجرحَ پالے کا پودوں کو اور دوا کا زخم کو جلا دینا۔۔۔ الرأس او الکُراع سری یا پایوں کے بالوں کو آگ پر جھلسانا۔۔۔ القِدرَ ہانڈی کو جوش دینا۔تشیّط جلنا، جل جانا۔ اشْتَاطَ استشاط علیہ پر غصہ سے بھڑکنا۔ اسْتَشاط علیہ پر غصہ سے بھڑکنا۔۔۔ فی الحرب جنگ میں اپنی جان جھونکنا۔الشِیَاطُ روئی وغیرہ جلنے کی بو۔عام لوگ اسے شُوِیط کہتے ہیں: التَشْیِیط والمُشَیَّط: قوم کے لئے بھونا ہوا گوشت۔

۲۔ شَاطَ – شَیْطًا و شِیَاطَۃً و شَیْطُوطَۃً ت الذبیحۃُ ذبیحہ کا سب گوشت بانٹ لینا۔۔ فلانٌ: فلاں کا ہلاک ہونا۔۔ دمُہُ کا خون رائیگاں جانا۔ فلانٌ الدماءَ: خون ملانا، یعنی قاتل کو مقتول کے خون پر قتل کرنا۔أَشَاطَ اللحمَ علی القومِ: گوشت کو لوگوں پر تقسیم کرنا۔۔۔ فلاناً: کو ہلاک کرنا۔۔۔ دمَ الجزور قربانی کے اونٹ کا خون بہانا۔۔۔ السلطانُ دمَہ و بدمہ: کسی کو قتل کے لئے سامنے لانا، کے خون کو مباح کرنا۔

۳۔ شَاط – شَیْطًا و شِیاطَۃً و شَیْطُوطَۃً فی الامر کام میں جلدی کرنا۔ اسْتَشَاط الحمَامُ کبوتر کا خوش ہو کر اڑ جانا۔۔ من الامر ہلکا ہونا۔

۴۔الشَیْطِیّ: فضا میں بلند ہونے والا غبار۔المُسْتَشِیط بہت ہنسنے والا، موٹا اونٹ۔

۵۔شَیْطَنَ و شَیطان: دیکھو شطن۔

○ شَاطَ – شَیطاً (خوراک کا) جل جانا۔شَیَّطَ ہ کو ہلکا سا جلانا، ذبیحہ کے بال و پر جلانا، جھلسنا۔أشاط بمعنی شَیَّطَ۔ تَشَیَّط: بمعنی شَاطَ۔ اِسْتَشَاطَ غضباً طیش میں آنا، آگ بھبھوکا ہو جانا۔

شاع: ۱۔ شَاعَ – شَیْعًا بالخبر خبر پھیلانا۔ شیعاً و شُیُوعاً و مشاعًا و شَیَعَانًا و شَیْعُوعَۃً الخبرُ: خبر کا پھیلنا۔۔ فیہ الشیبُ: کسی میں بڑھاپا ظاہر ہونا۔أَشَاع إشاعَۃً الخبرَ و بالخبرِ خبر پھیلانا، نشر کرنا۔تَشَیَّعَ ہُ الشَیْبُ میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا۔۔۔ اللبنُ فی الماءِ: دودھ کا پانی میں بکھرنا۔تَشَایَعَ ت الابلُ: اونٹوں کا متفرق ہونا۔ الشائع (فا): حدیث شَائع و شَاعٌ پھیلی ہوئی افشا شدہ بات۔شَاع: (عین کلمہ کے حذف کے ساتھ) پھیلا ہوا۔الشَاعَۃ: پھیلی ہوئی خبریں (یہ شائع کی جمع ہے)۔المَشَاع و المُشَاع: پھیلا ہوا۔رجلٌ مِشْیَاعٌ: وہ شخص جو اپنے راز کو نہ چھپائے۔راز کو پھیلانے والا مرد۔

۲۔ شَاعَ – شِیَاعًا ہُ: کے پیچھے پیچھے چلنا، ساتھ ساتھ چلنا، کا ساتھ دینا، کے ہمراہ جانا۔ اسی سے ہے: شَاعَکم السلامُ (سلامتی تمہارے ساتھ رہے)۔ شَاعَکُم اللہُ بالسلام: خدا تمہارے ساتھ سلامتی رکھے۔شَیَّعَ ہُ کے ساتھ اسے رخصت کرنے کے لئے یا اس کی منزل تک پہنچانے کے لئے جانا۔۔۔ الشیء کو بھیجنا اور اس کے پیچھے جانا۔۔۔ الرجُلُ: شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔شَایَعَ ہُ: کے ہمراہ جانا، کے سپرد کوئی کام کرنا۔۔۔ بھم الدلیلُ: رہنما کا لوگوں کو بلانا۔۔۔ بالابل: اونٹوں کو پکار کر بلانا۔ أَشَاعَ بالابل: بعض اونٹوں کے پیچھے رہ جانے پر بلانا۔کہتے ہیں أشَاعَکم اللہُ السلامَ و بالسلامَ: اللہ سلامتی کو تمہارا تابع کرے۔تَشَیَّعَ: شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔تَشَایَعَ تَشَایَعاً القومُ: مختلف گروہ ہو جانا۔تَشَایَعُوا علی الامر کسی معاملہ پر اتفاق کرنا۔تَشَایَعُوا فی دارٍ: کسی گھر میں شریک ہونا۔ إشْتَاعَا إشتیاعًا فی دار: دو کا کسی گھر میں شریک ہونا۔الشِیَاع: چرواہے کی بانسری یا آواز۔ یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ چرواہا اس سے اپنے اونٹوں کو اکٹھا کرتا ہے)۔الشیعۃ: واحد شِیعِیّ: فرقہ (واحد، اثنین اور جمع یہ مذکر و مؤنث پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ نام اغلباً حضرت علی اور ان کے اہل بیت کے طرفداروں کے لئے خاص ہے اور متوالی جس کی جمع مَتَاوِلہ ہے کے نام سے بھی معروف ہے۔ یعنی شام میں شیعہ فرقہ کا ایک رکن۔شِیعَۃُ الرجُلِ جمع شِیَع و أَشْیَاع کسی آدمی کے پیرو اور مددگار۔ سھمٌ شائِعٌ و شاعٌ وہ حصہ جو مشترک ہو اور تقسیم نہ ہوا ہو۔الشاعَۃ: بیوی۔الشَیِّع جمع شُیَعَاء ہ شَیِّعَۃ حصہ دار، شریک۔ کہتے ہیں ھٰذا شَیِّعُ لھٰذا وہ اس معاملہ جو دونوں میں مشترک ہے حصہ دار ہے۔ نیز کہتے ہیں الدارُ شَیِّعَۃٌ بینھما گھر دونوں کے درمیان مشترک ہے۔المُشَیُّوعی کمیونسٹ، کارل مارکس۔۔۔

marfat.com

المَشَاع و المُشَاع: مشترک، غیر منقسم۔ اسی سے ہے مَشَاعُ القری: وہ اراضی یا جنگلات جن میں گاؤں کے سب باشندے شریک ہوں۔المتَشَایِع و المُشْتَاع: شریک، ساجھی۔

۳۔ شَاعَ – شَیْعًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔المَشِیع بھرا ہوا برتن، کمینگی سے بھرا ہوا، کینہ در کینہ۔

۴۔شَیَّعَ الرجُلَ: کو جرأت دلانا، قوی کرنا۔۔۔ النارَ: آگ تیز کرنے کے لئے اس میں لکڑیاں ڈالنا۔۔۔ الشیءَ بالنار: چیز کو آگ سے جلانا۔تَشَیَّعَ ہُ الغضبُ: کے دل میں غصہ بھڑکنا۔۔۔ فلانٌ فی الشیء: کی محبت میں جان ہلاک کرنا۔الشِیاعُ: وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے۔ الشَیُوع: وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے۔ المِشْیَاع: تنور کی آگ ہلانے کی سیخ۔ المُشَیَّع (مفع): بہادر، جلد باز

۵۔شَیَّعَ شھرَ رمضان: رمضان کے مہینہ کے بعد چھ دن روزے رکھنا۔الشَیْع جمع أَشْیَاع: مقدار۔ (کہتے ہیں اقمتُ عندہ شھراً او شَیْعَ شھر: میں اس کے پاس ایک ماہ یا اس کی مقدار رہا۔ کان معہ مائۃُ رجل او شیعُ ذلک: اس کے ساتھ ایک سو آدمی یا اسکے لگ بھگ تھے۔) مثل۔ کہتے ہیں ھذا شَیْعُ ذاك: یہ اس کی مثل ہے۔ اسی سے ہے کما فعل بأشْیَاعِھم: جس طرح کے ان کے مثل لوگوں کے ساتھ کیا۔ کہتے ہیں: نزلوا موضع کذا او شَیْعَہُ: وہ فلاں جگہ یا اس کے قریب اترے۔ آتیكَ غداً او شیعَہُ: میں تیرے پاس کل یا اس کے بعد آؤں گا۔

۶۔المِشْیَعَۃُ: وہ ٹوکری جس میں عورتیں روئی وغیرہ رکھتی ہیں۔

○ شاع – شَیْعًا و شُیُوعا: پھیلنا، فاش ہونا، معلوم ہونا، عام ہونا (خبر وغیرہ)۔۔۔ فی: پر پھیلانا، پر منتشر کرنا (احساس کا) کسی شخص یا چیز میں سرایت کرنا، رچ بس جانا، کسی شخص یا چیز پر غلبہ یا تسلط رکھنا۔شاع فی پر چسپاں ہونا، لاگو ہونا، موزوں ہونا، سے عام طور پر منسوب ہونا، پر محمول ہونا۔شاع: کو پھیلانا، افشا کرنا، کی نشر و اشاعت کرنا، کو پھیلانا، مشہور کرنا، کے علم میں لانا، عام لوگوں کے نوٹس میں لانا۔شَیَّعَ ہُ: کو چھوڑنے جانا، کی مشایعت کرنا، کے ساتھ جانا، ہمراہ ہونا، کے ہمرکاب ہونا، کی حفاظت کے لئے اس کے ہمراہ جانا، کو خدا حافظ کہنا، کو الوداع کہنا، سے رخصت ہونا، کی آخری رسوم میں شریک ہونا۔شَیَّعَ ہ: کو بھیجنا۔ ہ: (کسی جتھے، ٹولی، گروہ وغیرہ)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سے وابستہ ہونا۔ شُیِّعَتِ الجنازۃُ: مرحوم کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جایا گیا، جنازہ یا تجہیز و تکفین کا واقع ہونا۔ شَایَعَ ہ علی: کسی بات میں کسی کی پیروی کرنا، خود کو کسی بات میں کسی کے مطابق بنانا، کسی بات میں کسی سے متفق ہونا۔ ہ/ ہ علی: کسی بات میں کسی شخص یا چیز کی حمایت کرنا، کسی بات میں کسی شخص یا چیز کا ساتھ دینا، طرفداری کرنا، جانبداری کرنا۔ أشاع ہ/ ب: کو پھیلانا، افشا کرنا، کو شائع کرنا، کی نشر و اشاعت کرنا، کو علم میں لانا، عوام کے علم میں لانا، مشہور کرنا۔ تَشَیَّعَ ل فی: کسی معاملہ میں کسی شخص یا بات کی حمایت کرنا، کسی معاملہ میں کسی شخص یا چیز کے لئے ساتھ دینا۔ ل: کسی شخص، چیز، جتھا گروہ سے جاملنا، یا میں شامل ہونا، کسی غرض کے لئے کسی سے متحد ہونا، کو پسند کرنا، کو منظور کرنا ــــ: شیعہ ہوجانا، شیعہ بن بیٹھنا۔ تَشَایَعَ علی: میں یا کے متعلق یا بارے میں کسی سے متفق ہونا۔ شِیْعَة جمع شیع: پیرو، حامی، حمایتی وابستہ، طرف دار، ہوا خواہ، متبع، مرید، چیلا، گروہ، ٹولہ، جتھا، جماعت، فرقہ۔ الشیعة: حضرت علی کا گروہ، شیعہ (جو حضرت علیؓ کو نبی کریم کا جائز اور حق دار خلیفہ تسلیم کرتے ہیں) جمع أشیاع: پیرو، حامی، متبع اور کٹر طرفدار۔ شِیْعِی جمع شیعیون: شیعہ۔

شِیاع: اشتراک (جائداد غیر منقولہ میں)۔ شُیُوع: نشر و اشاعت، پھیلاؤ (خبر وغیرہ)۔ علی الشُّیُوع: مشترکہ طور پر، مشترکہ قبضہ میں۔ شُیُوعِی: کمیونسٹ، اشتمالی، اشتمالی انداز کا جمع شُیُوعِیُون: کمیونسٹ، اشتمالی۔ شُیُوعِیَة: اشتمالیت، کمیونزم۔ تشییع الجنازۃ: تجہیز و تکفین، تدفین۔ مُشَایَعَة: کٹرپن، جانبداری۔ إشاعة: پھیلانا، نشر و اشاعت (خبروں کا) افواہ، خبر، اطلاع۔ إشَاعِیَة: اجتماعیت۔ تَشَیُّع ل: (کے لئے) کٹرپن، جانبداری، تعصب۔ شائع: دور دور تک پھیلا ہوا، مشہور و معروف عام، عوامی، عمومی، ہمہ گیر، عالمگیر۔ الشائع أنَّ: افواہ ہے کہ...... شائع الذیوع: بہت مشہور، دور دراز تک پھیلا ہوا۔ عام۔ شائع الإستعمال: عام استعمال میں، عموماً مستعمل، عام طور پر تسلیم شدہ۔ مِلک شائع: مشترکہ جائداد۔ شائعة جمع شائعات و شَوائِع: افواہ۔ مُشایِع: طرفدار، جانبدار، پیرو، حامی، کٹر۔ مَشاع: دور دور تک پھیلا ہوا، معروف، عوامی، عام، عالم گیر، ہمہ گیر، مشترک، مشترک یا اجتماعی ملکیت، مشترک، لگان داری، کرایہ داری (اسلامی قانون میں)، عوامی ملکیت، عوامی جاگیر، زمینداری۔ مُتَشَیِّع: جانبدار، کٹر۔ مُشْتَاع: حصہ دار، شریک، ہم شریک، ہم مالک۔

شاق: شَاقَ - شَیْقاً ہ إلیه: کو سے کس کر باندھنا۔ کہتے ہیں شاق الطُّنُب إلی الوتد: اس نے رسی کو کھونٹی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ الشِّیق: پہاڑ کی چوٹی یا اس کی دشوار جگہ، جانب پہاڑ کی تنگ درز، جانور کی دم کے بال ــــ واحد شِیْقَة (ح): ایک سمندری مچھلی۔

شال: شَالَ - شَیْلاً الشیءَ: کسی چیز کو کسی جگہ سے نکالنا۔ دودَ القزّ: ریشم کے کیڑے پالنا۔ الشَّیْلَة: بھاری پتھر یا لوہے وغیرہ کا ٹکڑا جسے اٹھا کر طاقت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ الشیّال: بوجھ اٹھانے والا، قلی۔ الشِیَالة: قلی کا پیشہ۔ الشَّیَّالَة: کپڑے کا ٹکڑہ جس کے ذریعہ ہانڈی آگ سے اتاری جاتی ہے (عام زبان)۔

○ شال - شیلا ہ: کو اٹھا کر لیجانا، لیجانا، اٹھانا، اونچا کرنا۔ شَیْلَة جمع شَیْلات: بوجھ، بار۔ شِیالة: لیجانا، نقل و حمل، بار برداری، خرچہ بار برداری، اجرت بار برداری۔ شَیَّال جمع شَیّالون و شَیَّالَة: قلی، باربردار۔ مِشال: لیجانا، بار برداری، نقل و حمل، اجرت، بار برداری۔

شام: ۱۔ شَامَ - شیماً: بدن پر تل ہونا۔ صفت: أشْیَم م شَیْمَاء جمع شِیم و شُوم۔ الشَّامَة جمع شام و شامات: تل۔ (کہتے ہیں: صاروا شاماً فی البلاد: وہ شہروں میں بکھر گئے جیسے بدن پر تل بکھرے ہوتے ہیں)۔ زمین میں سیاہ نشان، چاند کے بیچ کی سیاہی (ح): سیاہ اونٹنی۔ المَشِیم و المَشُوم و المَشْیوم: تل والا۔

۲۔ شَامَ - شَیْماً السیفَ: تلوار کو میان میں کرنا، تلوار کو میان سے نکالنا (ضد)۔ ــــ شَیْماً و شُیُوماً الرجلُ: لڑائی میں جم کر حملہ کرنا ــــ فی الشیء: میں داخل ہونا ــــ الشیء فی الشیء: کو میں چھپانا۔ شَیَّمَ یدیه فی رأس فلانٍ او ثوبه: کے سر یا کپڑے کو پکڑ کر لڑنا ــــ فی الشیء او الامر: میں داخل ہونا۔ أشَامَ و اِنْشَامَ و اشْتَامَ فی الشیء او الامر: میں داخل ہونا۔ تَشَیَّمَ الشیءُ فی الشیء: کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہونا ــــ الشیبُ فلاناً: کسی پر بڑھاپا آجانا۔ المَشِیمَة جمع مَشِیم و مشایم: وہ جھلی جس میں بچہ ماں کے پیٹ سے بوقت پیدائش نکلتا ہے۔

۳۔ شَامَ - شَیْماً البرقَ: بجلی کے چمکنے اور برسنے کی سمت کو دیکھنا۔ کہتے ہیں شَامَ مخایلَ الشیء: کسی چیز کے انتظار میں اس کی طرف دیکھنا۔ اِنْشَامَ الرجُلُ: منظور نظر ہونا۔

۴۔ شَامَ - شَیْماً و شُیُوماً الشیءَ: کا اندازہ کرنا، تخمینہ لگانا۔ کہتے ہیں: شِمْ مابینهما: ان دونوں کے درمیان اندازہ کرو۔

۵۔ تَشَیَّمَ أباه: خصلت میں اپنے باپ کے مشابہ ہونا۔ الشِیمة و الشِّیمَة جمع شِیَم: خُلق، طبیعت، عادت۔

۶۔ الشَّیَم: وہ زمین جس میں پہلے کھدائی نہ کی گئی ہو اور وہ اپنی سختی پر برقرار ہو۔ الشَّیام: نرم زمین، مٹی۔ الشِیام جمع شِیَم: مٹی۔ (ح): چوہا۔

○ شام - شیماً ہ: کا منتظر ہونا، کی توقع کرنا۔ شِیمِیَة جمع شَیامِی: بھنور، گرداب، بگولا، گرداب، چکر۔

شان: شَانَ - شَیْناً ہ: شکل بگاڑنا، کو ذلیل کرنا، پر عیب لگانا۔ شَیَّنَ الشِّینَ: حرف "ش" لکھنا۔ المَشَاین: عیوب، مصائب۔

○ شَائِن و مُشَیِّن: ذلت آمیز، شرمناک، رسوا کن، رسوائی کا موجب۔

شاہ: شَاہَ - شَیْهاً ہ: کو نظر بد لگانا۔ الشَیُوہ: نظر بد لگانے والا۔ کہتے ہیں ھو شیُوهٌ من أشْیَهِ الناس: اس کو سب سے زیادہ نظر لگتی ہے۔ شیبی: الشای (ن): چائے کا پودا، چائے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ص

ص تلفظ صاد، حروف تہجی کا چودھواں حرف۔ حروف ابجد میں اس کا نمبر شمار ۹۰ ہے۔

صئب ا۔ صَئِبَ -صَأَباً من الشراب شراب یا مشروب سے سیر ہونا، بھرنا۔ المِصْأَب: شراب یا مشروب سے بھرا ہوا یا سیر شدہ۔

۲۔ صَئِبَ -صَأَباً و أَصأَب الرَّأْسُ: سر کا لیکھوں سے پر ہونا۔ الصُّؤَابة جمع صُئوَاب و صِئبَان: لیکھ؛ جوں کا انڈا۔ الصِئبان: چھوٹے چھوٹے اولے۔

○ ص: صفحہ کا مخفف ص ب: صندوق البرید کا مخفف: ڈاک کا ڈبہ، پوسٹ بکس۔

صأص: صَأصَأَ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنے کے قریب ہونا۔ الرجلُ: بزدل ہونا۔ـــ و تَصَأْصَأَ منه: ـسے ڈرنا کا مطیع ہونا۔ الصِئصَاء: ردی کھجوریں۔ صِئْصِئَةُ الدیك: مرغ (کی ٹانگ) کا پنجہ، چنگل۔

صئك ا۔ صَئِكَ -صأكاً: بدبودار پسینہ آنا۔

۲۔ صَئِكَ -صَأْكًا الدمُ: خون کا جمنا۔ بہ: ـسے چمٹنا۔ صَاءَكَ مُصَاءكَةً ہُ: ـکے ساتھ سختی سے پیش آنا، کو تنگی ڈالنا۔ الصَئِك من الرجال: مضبوط آدمی۔

صأل: صَئُول یَصْئُولُ صآلَةً البعیر .اونٹ کا لوگوں پر حملہ آور ہونے اور انکو مار ڈالنے لگنا۔ صفت صَؤُول۔ صَأَلَ یَصْئِلُ صَئِیلاً الفرسُ: گھوڑے کا ہنہنانا۔

صأم: صَأَمَ -صأمًا الجیشَ علی القوم: فوج کو لوگوں تک پہنچنے کا راستہ دکھانا۔ صَئِمَ -صَأَماً: بہت پانی پینا۔ الصَائِم: پیاسا۔

صأی: صَأَی یَصْئِی و یَصْأَی صُئِیًّا و صَئِیًّا و صِئِیًّا و تَصَاءَی الفرخ: چوزہ کا چوں چوں کرنا، بچھو کا آواز نکالنا، اسی سے مثل مشہور ہے: یلذع و یَصْئِی: (بچھو ڈستا بھی ہے اور آواز بھی نکالتا ہے) مراد ظلم بھی کرتا ہے اور شکایت بھی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ جَاءَ بما صَأَی و صمت: یعنی وہ ناطق اور صامت دونوں قسم کا مال لایا غالبًا ناطق مال سے مراد جانور اور صامت مال سے عام اشیاء صرف ہے۔ أَصْأَی الفرخَ: چوزے سے چوں چوں کرانا۔

صب: ا۔ صَبَّ -صَبًّا الماءَ: پانی گرانا، بہانا۔ ـ فی الوادی: وادی میں اترنا۔ الدرعَ: زرہ پہننا۔ صَبَبْتُ الدرعَ علی فلانٍ: میں نے فلاں کو زرہ پہنائی کہتے ہیں۔ صبَّ علیہ البلاءَ من صبب: اس نے اس پر اوپر سے مصیبت ڈالی۔ صبَّ اللّٰہُ علیہ صاعقةً: اللہ اس پر بجلی گرائے۔ صبَّ رجُلَہ فی القید: اس نے اس کے پاؤں میں بیڑی پہنائی۔ -- صبّاً الماءُ: پانی کا گرنا، پانی کا بہنا۔ أَصَبَّ إصْبَاباً القومُ: قوم کا نیچے اترنا۔ تصبَّبَ الماءُ ونحوہ: پانی وغیرہ کا بہنا۔ تَصَابَّ الماءَ: بقیہ پانی پینا۔ ـــ العیشَ: باقی ماندہ زندگی گزارنا۔ انْصَبَّ الماءُ: پانی گرنا۔ علیہ: پر اترنا کہتے ہیں: انصبت قدماہ فی الوادی: اس کے پاؤں وادی میں ٹھہر گئے۔ اصْطَبَّ الماءُ: پانی گرنا ـــ الماءَ: باقی ماندہ پانی پینا۔ العیْشَ: باقی ماندہ زندگی گزارنا۔ ماءٌ صبٌّ: بہا ہوا پانی۔ الصُّبّ: گرایا ہوا کھانا وغیرہ۔ الصُّبَّة: گرایا ہوا کھانا وغیرہ، برتن میں بچا ہوا پانی یا دودھ (ط) شوربا۔ الصَّبَبَ جمع أَصْبَاب: دریا یا راستہ کا ڈھلان۔ نشیبی زمین یا راستہ الصُّبَابَة جمع صُبابات: برتن میں بچا ہوا پانی وغیرہ۔ کہتے ہیں۔ لم ادرك من العیشِ إلا صُبَابَةً: یعنی مجھے بچی کچھی زندگی ملی ہے۔ الصَّبِیب: پسینہ، خون، بقم کا نچوڑ، اوپر سے گرائی ہوئی چیز، عام لوگ کہتے دمٌ صبیب: ملاوٹ سے خالی خون۔ المَصَبّ جمع مَصَابٌ: گرنے کی جگہ، دریا کا دہانہ۔ المِصَبّ: حروف وغیرہ ڈھالنے کا آلہ۔ المَصْبُوب علی الشیء: (مفع) پر برانگیختہ کیا ہوا۔

۲۔ صَبَّ -صَبَابَةً الیہ: پر عاشق ہونا، فریفتہ ہونا۔ الصَّبّ: (مص) عاشق، سخت فریفتہ کہتے ہیں۔ رجلٌ صبٌّ جمع صَبُّون م صبّة جمع صبّات: عاشق (مرد) عاشق (عورت) الصبابة: سوزش، عشق، سخت محبت۔

۳۔ صُبَّ الشیءُ: چیز کا مٹایا جانا، نیست و نابود اور برباد کیا جانا۔

۴۔ الصُّبَّة: جماعت، گروہ، ٹولہ، گھوڑوں، اونٹوں اور بکریوں کا ایک گلہ، تھوڑا مال۔ الصَّبِیب: (ن) ایک پھولدار پودا، پھولوں سے رنگ بنایا جاتا ہے، اولہ، عمدہ شہد، سرخ رنگ، تلوار کی دھار کہتے ہیں۔ و ضعت صبیب السیف فی بطنہ: میں نے اپنی تلوار کی دھار اس کے پیٹ کے کنارے میں رکھ دی۔

۵۔ صَبْصَبَ ہُ و تَصَبْصَبَ: اس نے اسے پراگندہ کیا تو وہ پراگندہ ہو گیا۔ تصبصبَ اللیلُ: رات کا زیادہ حصہ گزر جانا۔

۶۔ تَصَبْصَبَ الحرُّ: گرمی کا تیز ہو جانا۔ــ علینا فلانٌ: (ہم پر) بہت جری ہونا۔ الصبصاب و الصَّبْصَب والصُّباصِب: سخت، مضبوط۔

○ صَالَة جمع صالات: ہال، بڑا کمرہ۔

صالُون: سیلون، بیٹھک، دیوان خانہ، کمرہ استقبال۔ عَرَبَةُ صالون: پارلر کار، کلب کار۔

○ صبَّ -صَبًّاہ فی: کو میں انڈیلنا، گرانا، ڈالنا، خالی کرنا۔ بھرنا۔ علیہ بلاءً: کو مصیبت میں ڈالنا۔ صب الغارة: دھاوا بولنا، حملہ کرنا ـــ ـصباً: (میں)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

انڈیلا جانا، گرنا، بہنا۔ــ علی: پر پڑنا، واقع ہونا، پر اتفاقاً پہنچ جانا، ٹوٹ پڑنا، چڑھ دوڑنا، اچانک حملہ آور ہونا۔ صَبابةً اِلی: سے سرگرم محبت کرنا۔ تَصَبَّبَ: گرنا، بہنا۔ ھ: میں رنگا ہوا ہونا، میں بکثرت ہونا، میں نہانا۔ــ: حل ہونا، پگھلنا۔ تَصَبَّبَ عَرَقًا: پسینہ میں شرابور ہونا، پسینہ آ جانا۔ اِنْصَبَّ: انڈیلا جانا، گرایا جانا، بہنا، زور سے نکلنا ــ علی / الی: کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، میں منہمک ہونا، پر تلا ہوا ہونا، کوتندہی سے کرنا، کچھ بننے یا کرنے کی کوشش کرنا، کی طرف رخ ہونا، کا نشانہ یا ہدف ہونا۔ صَبّ جمع اَصْباب: ڈھلان، پہاڑی علاقہ۔ صَبِیب: گرایا ہوا، بہایا ہوا، خون، پسینہ۔ صَبابة عشق، سرگرم محبت، پرولولہ خواہش آرزو۔ صُبابَة: بقیہ، باقی ماندہ، بچا کھچا۔ مَصَبّ جمع مَصَبّات و مَصابّ: نکلنے کا راستہ، بچنے کا ذریعہ، نجات، چھٹکارا، دریا کا دہانہ، نالی، نالی کا پائپ، قیف، دود کش۔ مصبوبات: ڈھلی ہوئی دھاتوں کی چیزیں، فونڈری کا تیار کردہ مال۔

صبأ: ۱۔ صَبَأَ - وصَبُؤَ - صَبْأً و صُبُوءًا: مذہب تبدیل کرنا، ایک مذہب سے نکل کر دوسرے میں چلا جانا۔ صابی ہونا۔ صفت۔ صَابِئ جمع صَابِئون و صابئة۔

۲۔ صَبَأَ - وصَبُؤَ - صَبْأً و صُبُوءًا علیهم: پر حملہ کرنا۔ العدوَّ علیهم: دشمن کو تک پہنچنے کا راستہ دکھانا۔ النابُ او النباتُ: دانت یا نبات کا نکلنا، پھوٹنا۔ اَصْبَأَ اصباءً القومَ: پر حملہ کرنا۔ــ الناب او النباتُ: دانت یا نبات کا نکلنا، پھوٹنا۔

۳۔ الصَّبَاؤت و الصَّبَاؤُوت جمع صِبِیٌّ: شان و شوکت، حسن و بزرگی (عبرانی میں) رَبُّ الصَّبَاؤت: شان والا۔ الصابئون و الصابئة: (صابی کی جمع) ستاروں کی پرستش کرنے والی ایک قوم بعض کے نزدیک وہ قوم جو خود کو دین نوح علیہ السلام کا پیرو جانتی ہے۔ اور کہا گیا ہے: ان کے علاوہ ہیں۔

صبح: ۱۔ صَبَحَ - صَبْحًا القومَ: قوم کے پاس صبح کے وقت آنا۔ صَبَّحَهُ: کے پاس صبح کے وقت آنا، کو صبح کی شراب پلانا۔ــ الرجلَ: کو صبح کے وقت سلام کرنا کہتے ہیں۔ صَبَّحَكَ اللّٰه بالخیر: اللہ تمہاری صبح بخیر کرے۔ــ القومَ الماءَ: قوم کو چلا کر صبح کے وقت پانی پر لانا۔ اَصْبَحَ: صبح میں داخل ہونا، نصف رات کو جاگنا۔ اَصْبِح یا رجل کا معنی ہے: اے شخص! غفلت سے بیدار ہو جا۔ تَصَبَّحَ: صبح کا ناشتہ کرنا۔ صبح کو سونا۔ــ: سے صبح کو ملنا۔ اِصْطَبَحَ الرجلُ: صبح کی شراب پینا۔ الصُّبْح جمع أَصْباح: دن کا پہلا حصہ۔ الصُّبْحَة: ناشتہ۔ والصُّبْحَة: صبح کی نیند۔ الصَّبَاح: دن کا پہلا حصہ، شام کا مقابل، آپ کہتے ہیں۔ آتیه صباحَ مساءَ: میں اس کے پاس صبح شام آتا ہوں۔ أتیتهُ ذا صباحٍ: میں اس کے پاس صبح کے وقت آیا۔ عِمْ صباحًا: تمہاری صبح خوشگوار ہو، یا تمہاری صبح عیش و آرام والی ہو، جب عرب کسی انسان وغیرہ سے براشگون لیتے تو کہا کرتے تھے۔ صَبَاحُ اللّٰهِ لا صَباحُك۔ یومُ الصَّبَاحِ: لوٹ مار کا دن۔ الصَّبَاحِیَّة: سال نو کے دن بچوں کو دیا جانے والا تحفہ۔ جسے السُّتْرِیْنَة: کہا جاتا ہے۔ عوام کے نزدیک: شادی کی رات کے بعد صبح کو دلہن کو دیا جانا والا تحفہ۔ الصَّبْحان م صَبْحَی جمع صُبَاحَی: صبح کی شراب پینے والا۔ رجلٌ صَبْحَان: جو صبح کی شراب پینے میں جلدی کرے۔ الصَّبُوح: صبح کے وقت کھائی یا پی جانے والی کوئی بھی چیز، صبح کے وقت دوہا ہوا دودھ کہتے ہیں۔ أتیتهُ ذا صَبُوحٍ: میں اس کے پاس صبح کے وقت آیا۔ الصَّبِیحَة و الاَصبُوحَة: صبح۔ المُصْبَح: صبح کا وقت، صبح کرنا، صبح کرنے کی جگہ۔ المِصْبَح: بڑا پیالہ۔ المِصْبَاح جمع مَصَابِیح: بڑا پیالہ (صبح کی شراب پینے کا)

۲۔ صَبُحَ - صَبَاحًا و صُبْحَةً: روشن و چمکدار ہونا۔ــ الحدیدُ: لوہے کا چمکدار ہونا۔ صَبُحَ - صَبَاحَةً الوجهُ: چہرے کا چمکدار اور روشن ہونا۔ــ الغلامُ: لڑکے کا خوبصورت ہونا۔ صفت صُبَاح و صَبِیح۔ تَصَابَحَ: بتکلف خوبصورت بنا کہتے ہیں۔ فلانٌ یتصابح و یتحاسن: فلاں شخص بتکلف صاحب حسن و جمال بنتا ہے۔ غلامٌ صُبَاح م صُبَاحَة جمع صِبَاح: خوبصورت (لڑکا لڑکی)۔ الصَّبِیح جمع صِبَاح م صَبِیحَة جمع صِبَاح: خوبصورت، روشن چہرے والا۔ الصَّبْحَان م صَبْحَی جمع صُبَاحَی: خوبصورت چہرے والا۔ الصُّبَاحِیَّة: چوڑے نیزے۔ الصَّبَاحِیَة: حسن و جمال، خوبصورتی۔ المِصْبَاح جمع مَصَابِیح: چوڑا نیزہ۔

۳۔ صَبِحَ - صَبَحًا و صُبْحَةً الشَّعَرُ: بالوں کا چمکدار ہونا۔ اِصْبَاحَّ اِصْبِیْحَاحًا الشَّعَرُ: بالوں کا چمکدار ہونا۔ الصُّبْحَة: سرخی مائل سیاہ رنگ۔ الصُّبَاحِیّ: بہت سرخ رنگ خون۔ الأَصْبَح م صَبْحَاء جمع صُبْح: شیر، پیدائشی طور پر سرخی مائل سفیدی والے بال، سرخی مائل سیاہ رنگ کا۔ النور الاصبح: دونوں آنکھوں کے درمیان سرخی مائل سیاہ رنگ والا بیل۔

۴۔ صَبَحَ - صَبْحًا عن الحق: حق ظاہر کرنا۔ اَصْبَحَ الحقُّ: حق ظاہر ہونا۔

۵۔ اَصْبَحَ المصباحَ: چراغ جلانا۔ اِصْطَبَحَ: چراغ روشن کرنا کہتے ہیں۔ الشمع ما یُصْطَبَحُ به: موم بتی روشن کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اِسْتَصْبَحَ الرجلُ: چراغ جلانا، روشن کرنا۔ الصُّبَاح م صُبَاحَة جمع صِبَاح: قندیل کا شعلہ۔ المِصْبَح: چراغ۔ المِصْبَاحُ جمع مصابیح: چراغ۔ مَصَابِیحُ النجوم: روشن ستارے جیسے سورج چاند وغیرہ۔

۶۔ أصبح زید عالمًا: زید عالم ہو گیا۔

ت صَبَحَ - صَبْحًا هُ: کو صبح کا مشروب پیش کرنا۔ صَبُحَ - صَبَاحَةً: خوبصورت ہونا، حسین ہونا، خوش شکل ہونا، خوش انداز ہونا، دلکش ہونا۔ــ (چہرے کا) چمکنا، شگفتہ ہونا، چمکدار ہونا، روشن ہونا۔ صَبَّحَ هُ: کو صبح کا مشروب پیش کرنا، کے پاس صبح کو آنا۔ ــ ہ/علی: کے لئے اچھی صبح کی خواہش کرنا۔ یُصَابِحُهُ ویُمَاسِیهِ: وہ صبح شام اس پر توجہ کرتا ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ اَصْبَحَ: صبح میں داخل ہونا، صبح کرنا، بیدار ہونا، بیدار رہنا، اپنے حواس میں ہونا، واضح ہونا یا ہو جانا۔ صبح کو ہونا یا واقع ہونا۔ أصبح فی: ایک صورت حال میں پہنچ جانا، ایک حالت کو پہنچنا، کسی جگہ پہنچنا جہاں۔ــ: ہونا، بڑھنا۔ اصبح الصباحُ: صبح ہو گئی۔ أصبح علی الخیر: اچھی صبح والا ہونا، دن خوش خوش شروع کرنا۔ تُصْبِحُ علی خیر: رات کے وقت الوداعی کلمات، خدا کرے تم کل صبح بخیر ہو۔ یفعله اذا أصبح و یفعله اذا أمسی: وہ یہ صبح شام کرتا ہے، وہ ہمیشہ یا لگاتار یہ کرتا رہتا ہے۔ أَصْبَحَ الحقُّ: حق واضح ہو گیا۔ لَمْ یُصْبِحْ یفعل: اس نے یہ اس کے بعد نہیں کیا۔ لم یصبح له وجود: وہ اس کے بعد نہ رہا۔ اصطبح: صبح کا مشروب پینا۔ــ ھ: کو (جیسے لیمپ کو) روشن کرنا، کو جلانا۔ــ ب: کو روشن کرنے کے لئے استعمال کرنا۔ اِسْتَصْبَحَ: دن شروع کرنا۔ صُبْح جمع اَصْباح: سویرا، تڑکا، فجر، طلوع صبح، طلوع سحر، صبح۔ صُبْحَة: صبح سویرے، ناشتہ۔ صَبَاح: صبح۔ صباحًا: صبح کو۔ صباحَ مَسَاءَ: صبح کو شام کو، صبح شام۔ صباحَ الیوم: آج صبح۔ صباحك بالخیر صباح بالخیر عِمْ صباحًا: صبح بخیر۔ صباحِیّ: (صبح کا) صُبَاح و صَبْحَان م صَبْحَی: خوبصورت، حسین، دلکش۔ صبیح جمع صِبَاح: خوبصورت، حسین دلکش، پیاری شکل کا۔ صَبَاحَة: خوبصورتی حسن، جمال۔ صَبِیحَة: صبح صَبُوح: صبح کا مشروب، صبح

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سویرے کی طرح خوبصورت، چمکدار، روشن۔ مِصْبَاح جمع مَصَابیح: لیمپ، روشن (مشہور شخصیت) (کار وغیرہ کی) سامنے کی بتی۔ مِصبَاحُ الاضاءۃ: تاباں روشنی، روشنی کا بلب۔ مصباح کشاف: سرچ لائٹ۔ مصباحٌ کَہرَبائی: بجلی کی روشنی، روشنی کا بلب۔ مصباح کہربائی یَدَوی: برقی فلیش لائٹ، بیٹری، ٹارچ، برقی مشعل۔ اصباح: صبح۔ اِستِصبَاح: روشن کرنا۔ غاز الاستصباح: روشنی کرنے والا گیس۔ مُصْبَح: صبح۔

صبر: ا۔ صَبَرَ ـِ صَبْراً علی الامر: کو بہادری سے برداشت کرنا صفت صَابِر و صَبِیر و صَبُور۔ صَبَّرَہُ: کو صبر کرنے کے لئے کہنا، صبر دلانا۔ صَابَرَ صِبَاراً و مُصَابَرَۃً ہُ: پر صبر میں غالب آنا۔ أَصْبَرَہُ: کو صبر کرنے کے لئے کہنا۔ تَصَبَّرَ: بناوٹی صبر کرنا۔ علیہ پر صبر کرنا۔ اِصْطَبَرَ و اِصَّبَرَ علیہ: پر صبر کرنا۔ اِصْبَارَّ اصْبِیراراً علیہ: پر صبر کرنا۔ الصَّبْرُ: (مص) مصیبت کی شکوا شکایت کے بغیر برداشت، صبر اور حوصلہ۔ الصَّبْرَۃ: اسم مرۃ۔ الصَّبَّار: بہت صبر کرنے والا۔ الصَّبَّارَۃ: (اع) فوجی سپاہی جو کسی شہر یا کیمپ کے گرد گھات لگانے کی جگہوں میں ٹھہرے رہتے ہیں اور جب دشمن کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً اسکی اطلاع دے دیتے ہیں۔ اس کا اسم الصَّبَر ہے۔ الصَّبُور جمع صُبُر: بردبار۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم۔ بہت صابر۔ الصبیر جمع صُبَرَاء: صبر کرنے والا۔

۲۔ صَبَرَ ـِ صَبْراً عن الشیء: سے رکنا۔ ـــ الدابّۃ: جانور کو بلا چارہ کے باندھے رکھنا۔ ـــ ہُ: کو مجبور کرنا، لازم ٹھہرانا۔ ہ عن الامر: کو سے روکنا۔ صبرتُ نفسی عن کذا: میں نے کسی بات سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ صبرتُ علی ما أکرہ و صبرت عما أحب: میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے باز رکھا جو میں پسند نہیں کرتا اور جو چیز مجھے پسند ہے اس سے رکا رہا۔ صَبَّرَ المیّتَ: مردہ کے پیٹ میں ایلوا رکھنا تاکہ وہ سڑ نہ جائے۔ أَصْبَرَ: شیشی کو ڈاٹ لگانا۔ ـــ القاضی فلاناً: قاضی کا مخالف سے بدلہ دلانا۔ اِصْطَبَرَ واصَّبَرَ منہ: سے بدلہ لینا۔ الصَّبْرُ: (مص) کہتے ہیں۔ قُتِل صبراً: یعنی اسے قتل ہونے تک محبوس رکھا گیا۔ حلف صبراً: اسے حلف اٹھانے تک محبوس کیا گیا۔ یمین الصَّبْر: قید کرکے لی گئی قسم۔ شہرُ الصَّبْر: رمضان کا مہینہ۔ الصَّبَر جمع أَصْبَار: برف۔ الصِّبار: کارک، ڈاٹ۔ الصَّابُورۃ: کشتی جہاز وغیرہ میں رکھا ہوا بوجھ جس کی وجہ سے ایک طرف نہ جھکے۔ الصَّبُورۃُ من الرجال: قتل کئے جانے کے لئے قید کیا گیا شخص۔ المَصْبُور: قتل کے لئے قید کیا ہوا شخص۔ المَصْبُورَۃ: مصبور کا مونث، قسم۔

۳۔ صَبَرَ ـُ صَبْراً و صَبَارَۃً بہ: کا ضامن بننا۔ ـــ ہُ: کو ضامن دینا کہتے ہیں۔ اصْبُرْنی: مجھے ضامن دو۔ الصَّبَارَۃ: ضمانت۔ الصَّبِیر جمع صُبَرَاء: ضامن، قوم کا مکھیا اور چودھری۔

۴۔ صَبَّرَ الکأسَ: پیالہ کو کناروں تک بھرنا۔ اِسْتَصْبَرَ الشیءُ: کثیف ہونا، کا ڈھیر لگنا۔ الصِّبْرُ جمع أَصْبَار: چیز کا کنارہ طرف۔ سفید بادل کہتے ہیں۔ اخذ الشیء بِأَصْبَارِہ: اس نے چیز پوری پوری لے لی۔ ملأ الکأسَ الی اِصْبارھا: اس نے پیالہ کناروں تک بھر دیا۔ الصُّبْر جمع أَصْبَار: بمعنی الصِّبر۔ والصُّبْر: کنکریلی زمین جو سخت نہ ہو۔ الصُّبْرۃ جمع صِبَار: غلہ کا انبار (اَخَذَہُ صُبْرَۃً: اس نے اس کو بے ماپے تولے سب کا سب لے لیا) سخت پتھروں کا ڈھیر۔ الصبارَۃ و الصُّبَارۃ: چکنے پتھر۔ الصَّبَّارۃ: بنجر سخت زمین۔ الصبیر جمع صُبَرَاء: پہاڑ۔ والصَّبِیرَۃ: چوڑی روٹی۔ الصَّابُورِیَّۃ: (ب) مٹی وغیرہ ڈھونے کے لئے اوپر سے چوڑی نیچے سے تنگ ٹوکری۔ المَصْبُوْرُ م مصبورَۃ: قتل کے لئے قید کیا ہوا، ڈھیر لگایا ہوا۔

۵۔ أَصْبَرَ اللبنُ: دودھ کی کھٹاس کا تیز ہوکر کڑواہٹ تک پہنچنا۔ الشیءُ: ایلوے کی طرح کڑوا ہونا۔ الصَّبِر جمع صُبُوْر واحد صَبِرَۃ جسے المَقْر اور المَقِر بھی کہتے ہیں۔ ایلوا، ابو صابر: نمک۔ الصُّبَار والصُّبَّار: املی۔ الصِّبار: ترش درخت کا پھل۔

۶۔ أَصْبَرَ الرجُلُ: مصیبت میں پڑنا۔ اِسْتَصْبَرَ الشیءُ: سخت ہونا۔ الصُّبْرَۃ: سردی کی شدت۔ صُبْرَۃُ الشتاء: سردی کا درمیانی زمانہ۔ موسم سرما کا وسط۔ الصَّبارۃ الصَّبَّارَۃ: سردی کی شدت۔ اُمّ صَبَّار وام صبُّور: مصیبت۔

۷۔ الصَّبَّار: (ن) ایک پودا ـــ والصُّبَیِّر: (ن) ایک پودا۔

○ صَبَرَ ـِ صَبْراً ہُ: کو باندھنا، بیڑی پہنانا، کو بیڑیاں ڈالنا، روکنا، پر پابندی لگانا۔ -- صابر ہونا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا۔ -- علی: کو خاموشی سے، صبر سے، مضبوطی سے برداشت کرنا، کو بھگتنا، جھیلنا، سہنا۔ صبر عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، علیحدہ ہونا، الگ ہو جانا، مستعد ہونا، ـــ دینا۔ ل: کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جما رہنا۔ صَبَّرَہ: کو صبر کرنے کے لئے کہنا، کو فہمائش کرنا، نصیحت کرنا کہ وہ صبر کرے۔ -- ہ: (دل کو) تسلی دینا، تشفی دینا، دلاسا دینا، کی دل جوئی کرنا۔ -- ہ: کو پائیدار بنانا۔ دیرپا بنانا، کا تحفظ کرنا، بچائے رکھنا، محفوظ رکھنا، کو ڈبوں میں بند کرنا۔ بطنہُ: ہلکا کھانا کھانا۔ صَابَرَہُ سے صبر و استقامت میں مقابلہ کرنا، مضبوطی سے برداشت کرنا۔ تَصَبَّرَ: صبر کرنا، برداشت کرنا، سہنا، ثابت قدم رہنا۔ اصطبر بمعنی تَصَبَّرَ۔ قتلہ صبراً: کو حراست کے دوران قتل کرنا۔ لاصبر لی: میں اسے برداشت نہیں کرسکتا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ قلۃ الصبر: بےصبری، بےتابی۔ قلیل الصبر و قلَّ صبرُہُ: بےصبر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والا۔ لم یَبْقَ فِی قوسِ صبری مِنْزَع: میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ صَبْر: بیڑیاں ڈالنا، صبر و تحمل، اطمینان، سکون، دلجمعی، استقلال، ثابت قدمی، مضبوطی، ضبط نفس، جذبات پر قابو، ٹھنڈا مزاج، استقلال، ثابت قدمی، صبر، برداشت حوصلہ۔ صَبِر و صَبْر ایلواء: (aloe) صُبْرَۃ: ڈھیر۔ صُبْرَۃً: بحیثیت مجموعی، سارا ایک ہی بار۔ صَبَّار: بہت صابر، برداشت کرنے والا، ثابت قدم۔ صُبَار و صُبَّار: اِملی۔ صُبَیِّر: املی۔ صَبُور جمع صُبُر: (بہت) صابر، برداشت کرنے والا، ثابت قدم۔ صَبَارَہ و صَبَارَّۃ: سخت سردی۔ تصبیرۃ: قبل از دوپہر ہلکا کھانا، معمولی کھانا۔ مُصَابَرَۃ و اصطبار: برداشت، صبر، استقلال، ثابت قدمی، صابر۔ مَصَبَّرات: مربہ جات، ڈبوں میں بند کھانے پینے کی اشیاء۔ صَبَّر ہ: (بحری جہاز وغیرہ) میں توازن قائم رکھنے کے لئے بھرائی کرنا۔ صابُورۃ: جہاز کی بھرائی، بوجھ (توازن قائم رکھنے کے لئے)

صبع: ا۔ صَبَعَ ـَ صَبْعًا بہ و علیہ: کی طرف انگلی سے اشارہ کرکے بتانا۔ فلاناً علیہ: کو اشارہ سے کے متعلق بتانا، پتہ دینا ـــ صَبْعًا و مَصْبَعَۃً ہُ: کی انگلی پر مارنا ـــ الشیءَ: میں اپنی انگلی ڈالنا ـــ بین القوم: غیر کو قوم کا پتہ دینا ـــ فی الطعام: کھانے میں انگلی ڈالنا۔ الأُصْبُع والإِصْبُع والأَصْبُع والأَصْبَع والإِصْبَع والأُصْبَع والأَصْبِع والإِصْبِع والأُصْبِع جمع أَصَابِع: (ع ا) انگلی۔ مونث ہے، کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ علی ماشیتہ اصبع: چرواہے کے مویشی پر خوبصورتی کا اثر ہے کہ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہے۔ اصابع الید: ہاتھ کی انگلیاں (ابہام، سبّابۃ، وسطٰی، بنصر خنصر) الاُصبُوع جمع اَصَابِیع: انگلی۔ المُصَبَّع: سیخ (گوشت بھوننے کی)

۲۔ صَبَغَ ـَ صَبغًا و مَصبَغَۃً ہٗ: کو (متکبر) بنانا۔ من وّلاہ السلطان صبغہ الشیطان: بادشاہ جس کو حاکم بناتا ہے شیطان اسے متکبر بنا دیتا ہے۔ (شیطان اس میں تکبر کی روح پھونک دیتا ہے) المَصبَغَۃ: تکبر۔ المَصبُوع: متکبر۔

۔ صَبَغَ ھا: (مرغی میں انگلی چبھونا تاکہ معلوم کیا جائے کہ کیا وہ انڈا دینے والی ہے) اِصبَع جمع اَصَابِع و اصبع القدم: انگلی (ہاتھ یا پاؤں کی) سادہ پیمائش: 3.125 سینٹی میٹر۔ اصابع من البطاطس: (تلے ہوئے آلو (فرانسیسی) بَصمَۃُ الاصابع: انگلیوں کا نشان۔ طابع الاصابع: انگلیوں کا نشان۔ لہ اِصبَعٌ فی ھذا الامر: اس معاملہ میں اس کا ہاتھ ہے۔ صُبَاع: انگلی۔ صباع و صُباع القدم: پاؤں کی انگلی۔ اُصبُوع جمع اصابیع: انگلی (ہاتھ یا پاؤں کی) مُصَبَّع: گرل (grill)

صبغ: ۱۔ صَبَغَ ـَ صَبغًا و صِبغًا الثوب: کپڑے کو رنگنا کہتے ہیں۔ صبغونی فی عینک: انہوں نے آپ سے میرے متعلق بری بات کر کے مجھے آپ کی نظر میں وہ شخص بنا دیا جو میں نہیں ہوں۔ ـــ صُبُوغًا ضرع الناقۃ: اونٹنی کے تھن کا بھرنا اور خوش رنگ ہونا۔ صَبَّغَ: صبغ کا مبالغہ۔ ـــ و اَصبَغَ النخلُ: کھجور کا پکنے لگنا۔ اصطَبَغَ بکذا: سے رنگین ہونا۔ الصِبغ و الصِبغ جمع اَصبَاغ و الصِبَاغ جمع اَصبِغَۃ و الصِبغَۃ: رنگ۔ الصُبغَۃ: کچی پکی کھجور۔ الصِبَاغَۃ: رنگریزی۔ الصَبَّاغ: رنگریز، رنگنے والا، جھوٹا۔ الاَصبَغ من الطیر و الشاء م صَبغَاء جمع صُبغ: سفید دم کا پرندہ یا بکری۔ من الخیل: وہ گھوڑا جس کی پیشانی یا کان کے اطراف سفید ہوں۔ الصَبِیغ: رنگا ہوا۔ کہتے ہیں۔ ثوبٌ صَبِیغٌ و ثیابٌ صُبُغ: رنگا ہوا کپڑا، رنگے ہوئے کپڑے۔ المَصبَغَۃ: رنگائی کا کارخانہ۔ جگہ جہاں رنگائی کا کام کیا جاتا ہو۔

۲۔ صَبَغَ ـَ صَبغًا و صِبغًا یدہ فی الماء: پانی میں ہاتھ ڈبونا۔ یدہ بالعمل: کام میں مشغول ہونا۔ فلانًا فی النعیم: کو نعمتوں میں غرق کرنا۔ ہٗ بالماء: کو پانی سے بپتسمہ دینا۔ اصطبغ: بپتسمہ لینا۔ اَصبَغَ علیہ النعمۃَ: کو کامل نعمت سے نوازنا۔ تَصَبَّغَ فی دینہ: کسی پر دین کا رنگ اچھی طرح چڑھنا اور مذہب میں پختہ ہونا۔ اِصطَبَغَ بالصِبغ ای الادام: سالن سے روٹی کھانا، کہتے ہیں۔ اصطبغ بالخلّ او فی الخلّ: اس نے سرکہ کو سالن بنالیا۔ الصِبغ: سالن، جیسے سرکہ، تیل۔ الصِبغَۃ: نوع، بپتسمہ، اصطباغ، ملت، دین۔ (الصِبغہ عام بول چال میں) الصابغ (فا): بپتسمہ دینے والے یوحنا کا لقب۔ الاَصبَغ م صَبغاء جمع صُبغ: بڑا اسیلاب۔

○ صَبَغَ ـَ صُبغًا و صِبغًا ھ ب: کو کا انداز، کی چاشنی یا ہلکا سا اثر یا شکل دینا۔ صبغہ صِبغَۃً اخری: کی کایا پلٹنا، کو قلب ماہیت کرنا، تبدیل کرکے کچھ اور بنا دینا۔ اصطَبَغَ: رنگا جانا، رنگین ہونا، بپتسمہ دیا جانا، بپتسمہ لینا۔ صِبغ جمع اَصبَاغ: رنگ، رنگ تیار کرنے کی چیز، رنگ کا کوٹ، وارنش، میک اپ، گریس پینٹ، چہرے کا روغن۔ صِبغَۃ: رنگ، تنکچر (Tincture) جھلک۔ شائبہ، انداز، ہلکا سا روپ، کچھ، قدرے، تھوڑا سا نازک فرق، طبیعت، کردار، پینٹ۔ (کا کوٹ) (Coat of paint) وارنش، بپتسمہ، دین۔ صبغۃ الافیون: افیون کی تنکچر۔ صبغۃ الیود: آیوڈین کی تنکچر۔ صِبغَۃٌ مَحَلِّیَّۃ: لوکل بیج، لوکل کلر۔ اخرجہ من صبغتہ: کسی شخص یا چیز کو تبدیل کرنا، کی شکل یا صورت بگاڑنا۔ صِبَاغ جمع اَصبِغَۃ: رنگ، رنگ تیار کرنے کی چیز، مسالہ، چٹنی۔ صابغ: رنگنے والا، بپتسمہ دینے والا۔ مَصبُوغ: رنگا ہوا۔ ب: جس میں کی جھلک ہو، جو بو سے متاثر ہو، جس کو کا رنگ چڑھا ہوا ہو، جس کے رگ و پے میں کچھ جاری و ساری ہو۔

صبن: ۱۔ صَبَنَ ـِ صَبنًا الشیء عنہ: کو سے روکنا، باز رکھنا، کو دوسری طرف پھیر دینا۔ اِنصَبَنَ و اصطَبَنَ عنہٗ: سے پھر جانا۔

۲۔ صَبَنَ ـِ صَبنًا المقامرُ الکعبین: جواری کا پانسہ ہاتھ میں کرکے پھینکنا۔

۳۔ التَصَبُّن (ك): کیمیائی عمل جس میں نمکین ایتھر اور پانی کے باہم گرعمل سے سپرٹ اور ایسڈ کی تخلیق ہوتی ہے اسے تصبن کا نام دینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس قسم کے باہم گرعمل کے ذریعہ صابن بنایا جاتا ہے۔ الصابون: صابن، صابن کی ایک ٹکیہ کو صابونۃ کہتے ہیں۔ یہ فارسی لفظ ہے۔ عربی میں اس کا مقابل غاسول ہے۔ الصبّان و الصابونی: صابن بنانے یا بیچنے والا۔ الصابونیۃ: (ن) ایک پودا جس کی جڑیں زمانہ قدیم میں کپڑے دھونے کے لئے استعمال کی جاتی تھیں۔ المَصبَنَۃ: صابن بنانے کا کارخانہ۔

○ صَبَّنَ ہ: کو صابن سے دھونا، رگڑنا۔ صابون: صابن حجر الصابون: سوپ سٹون (Soap Stone) صابونۃ: صابن کی ٹکیہ۔ صابونی: صابن کا سا، صابن کا بنا ہوا۔ صَبَّان: صابن کا بائلر Soap boiler۔

صبا: ۱۔ صَبَا ـُ صَبوَۃً و صُبُوَّۃً و صُبُوًّا الیہ ولہ: کا مشتاق ہونا۔ صَبِیَ یَصبَی صَبَاءً الیہ: کا مشتاق ہونا۔ اَصبَی الشیءُ فلانًا: کسی چیز کا کسی کو اپنا شوقین بنانا کہتے ہیں۔ اَصبَتہُ المکارمُ: عالی ظرف خصوصیات نے اسے اپنا گرویدہ کرلیا۔ تَصَبَّی تَصَبِّیًا المرأۃَ: عورت کو فریب دینا، فریفتہ کرنا۔ ہ الشیءُ: کسی چیز کا کسی کو شوق میں ڈالنا، گرویدہ کرنا۔ تَصَابَی تصابیًا المرأۃَ: عورت کو فریب دینا فریفتہ کرنا۔ اِستَصبَی الیہ: کا مشتاق ہونا۔ الصِباء: شوق۔

۲۔ صَبَا ـُ صَبوًا و صُبُوًّا و صِبًا و صَبَاءً: بچپن کی طرف مائل ہونا، بچوں کی خصلت والا ہونا، صفت صَابٍ مونث صَابِیَۃ۔ صَبِیَ یَصبَی صَبَاءً: بچوں جیسے کام کرنا۔ اَصبَی الرجُلُ: بچے والا ہونا۔ تَصَبَّی تَصَبِّیًا و تَصَابَی تَصَابِیًا: کھیل کود کی طرف مائل ہونا۔ اِستَصبَی: بچوں کا سا کام کرنا۔ ہٗ: سے بچے کی طرح پیش آنا۔ الصِبا و الصَبَاء: بچپن کہتے ہیں: رأیتُہ فی صباہ او فی صَبَائِہ: میں نے اسے اس کے بچپن میں دیکھا تھا۔ الصَبوَۃ: بچپنا پن۔ الصَبِیّ جمع صُبیَان و صِبیَان و صُبوَان و صِبوَان و اَصبِیَۃ و صِبیَۃ و صَبیَۃ و صُبیَۃ و صِبوَۃ و اَصبٍ م صَبِیَّۃ جمع صَبَایَا: بچہ، جس کا دودھ ابھی نہ چھڑایا گیا ہو۔ الصَبِیَّۃ: لڑکی۔ الصُبَیَّۃ و الاُصَیبِیَۃ: صبیۃ و اُصبیۃ: کی تصغیر (صَبیّ کی جمعیں) امرأۃ مُصبِیَۃ و مُصبٍ: بچہ والی عورت۔

۳۔ صَبَا ـُ صَبَاءً و صُبُوًّا ت الریحُ: پروائی ہوا چلنا۔ صُبِیَ و اَصبَی القومُ: کو پروائی ہوا لگنا۔ الصَبَا (مص) تثنیہ صَبوَان و صَبَیَان جمع صَبَوَات و اَصبَاء: پروائی ہوا (مونث) اسکی مقابل ہوا الدبور کہلاتی ہے۔ الصَابِیَۃ: شمال مشرقی ہوا۔ صَابَی مُصَابَاۃً رمحَہٗ: نیزہ کو مارنے کے لئے جھکانا۔ السیفَ: تلوار کو میان میں الٹی طرف کرنا، الٹانا اور جھکانا۔ الکلامَ: بے قاعدہ بولنا۔

۵۔ الصَبِیّ: تلوار کی دھار، پاؤں کا پنجہ کہتے ہیں۔ بہ وجع فی صَبِیّ قدمہ: اس کے پاؤں کے پنجہ میں درد ہے۔ الصَبِیَّان: ٹھوڑی کے قریب داڑھی کے کنارے۔

○ صَبَا ـُ صَبوًا و صُبُوًّا و صِبًا و صَبَاءً: بچہ ہونا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(مزاج میں) بچوں کا سا ہونا۔۔۔ صَبْوًا و صَبْوَةً الـى ۔۔۔ کی طرف پھرنا، کی طرف جھکنا، مائل ہونا، کی رغبت محسوس کرنا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا۔صَبِیَ ۔ صَبَاءً و صِبًا: بچہ کی طرح پیش آنا، بچوں جیسا رویہ اختیار کرنا، کام کرنا۔تَصَبَّی: بچہ جیسا برتاؤ کرنا بچوں جیسا رویہ اختیار کرنا، کھیل کود کی طرف مائل ہونا، دوبارہ نو جوان ہو جانا، دوبارہ جوان بننا، اعادہ شباب سے گزرنا، دوبارہ جوانی حاصل کرنا۔۔۔ ھا: (عورت) سے معاشقہ کرنا، عشق بازی کرنا۔۔۔ ہ / ھ: کسی کو (یا دل کو) آکسانا، ترغیب دینا، ورغلانا، سلانا، لبھانا، موہ لینا، فریفتہ کرنا، شیفتہ کرنا۔صَبًا جمع صَبَوَات و أصْبَاء: مشرقی ہوا، پروا۔صِبًا و صِبًى: بچپن، لڑکپن، جوانی شباب، رجحان، میلان، رغبت، شوق، آرزو، خواہش، تمناصباء: بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب۔ صَبْوَة: جوانی کا شوق، عاشقانہ مزاج، شوق طبیعت، شہوانی خواہش، بچوں جیسے اخلاق وعادات۔صَبْوَ: جوانی کا شوق، عاشقانہ مزاج، شہوانی خواہش، بچوں جیسے اخلاق وعادات۔صُبُوَّة: بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب۔صَبِیّ جمع صِبْیَة و صَبْیَة و صِبْیَان و صُبْیَان و أصْبِیَة: لڑکا، جوان۔صَبِیَّة جمع صَبَایَا: لڑکی۔صِبْیَانِی: طفلانہ، بچوں کا سا (مزاج میں) بچپن والا، بچپنا، احمقانہ، بچوں کا۔صَابٍ: جوان، کم سن، نوعمر، نابالغ، بے پروا، غافل، جلد باز، عاقبت نا اندیش۔

صتّ: ۱۔ صَتَّ ۔ صَتًّا ہُ: کو زور سے دھکیلنا، ہاتھ سے مارنا۔بکلام او بداھیة: پر تہمت لگانا، یا مصیبت ڈالنا۔صَاتَّ مُصَاتَّةً و صِتَاتًا ہُ: سے جھگڑنا۔ تَصَاتَّ القومُ: آپس میں لڑنا، جھگڑنا۔الصِّتّ والصُّتَّة: ضد، ہٹ۔الصَّتِیت: آواز، شور۔

۲۔ الصَّتّ والصِّتّ والصُّتَّة: جماعت، گروہ آپ کہتے ہیں: رأیت صَتًّا من الناس: یعنی میں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا۔الصَّتَت: درپے کہتے ہیں۔ھو بصَتَتِہ: وہ اس کے درپے ہے۔الصَّتِیت: جماعت، گروہ۔المُصْتِیت: کاموں میں مستعد وچست۔

صتع: صتع ۔ صَتْعًا ہُ: کو پچھاڑنا۔تَصَتَّعَ: کسی کام میں تردد کرنا۔الصَّتَع: قوی نوجوان (ح) گورخر۔

صتم: صَتَّمَ الشیءَ: کو مکمل کرنا۔تَصَتَّمَ: تیز دوڑنا۔الصَّتَم والصُّتُم: سخت مضبوط، خوب مضبوط آپ کہتے ہیں: ألفٌ صَتَمٌ: پورا ہزار۔الصَّتْمَة و الصَّیْتَمَة: سخت چٹان۔المُصَتَّم (مفع): بند گلی یا وادی۔

صجّ: صَجَّ ۔ صَجًّا: لوہے کو لوہے پر مارنے سے آواز نکلنا۔الصُّجُج والصجیج: لوہے پر لوہے کے پڑنے کی جھنکار۔

صحّ: ۱۔ صَحَّ ۔ صُحًّا و صِحَّةً و صَحَاحًا: تندرست ہونا، بیماری کا جاتا رہنا۔الشیءُ: چیز کا ہر عیب سے بری اور سالم ہونا۔صَحَّحَ المریضَ: بیمار کی بیماری دور کرنا، بیمار کو صحت یاب کرنا۔الکتابَ: کتاب کی غلطی کو ٹھیک کرنا۔أصَحَّ اصْحَاحًا ہُ: کو تندرست کرنا یا پانا، کی بیماری دور کرنا۔الرجلُ: آدمی کے بال بچوں یا اسکے مویشی کا تندرست ہونا۔تَصَحَّحَ بکذا: کسی چیز سے علاج کرنا۔اِسْتَصَحَّ من مرضہ: تندرست ہونا۔الصِّحَّة (مص) صحت، تندرستی۔الصحیح جمع أصِحَّاء و صِحَاح و أصِحَّة و صَحَائِح: تندرست، عیب وغیرہ سے پاک۔المَصَحّ جمع مَصَاحّ و مَصَحَّات: جائے صحت، ہسپتال (تپ دق کے مریضوں کا) المَصَحَّة والمِصَحَّة: صحت بخش یا محافظ صحت کہتے ہیں۔الصومُ مَصِحَّة: روزہ صحت بخش ہے یا صحت کا محافظ ہے۔ارضٌ مَصَحَّةٌ: وبائی امراض سے پاک زمین، یا وہ زمین جہاں بیماریاں کم ہوں۔

۲۔ صَحَّ ۔ صُحًّا و صِحَّةً و صَحَاحًا الخبرُ: خبر کا مطابق واقع ثابت ہونا یعنی درست ہونا۔صفت صحیح و صَحَاح کہتے ہیں۔صَحَّ لی علی فلان کذا: فلاں کے خلاف میری بات درست نکلی۔اِسْتَصَحَّ الکلامَ: بات کو صحیح پانا۔الصحیح جمع أصِحَّاء و صِحَاح و أصِحَّة و صَحَائِح: قابل اعتماد۔الإصْحَاح والأصحاح من التوارة والانجیل: توات یا انجیل کا ایک باب۔

۳۔ الصَّحَاح من الطریق: دشوار راستہ۔

۴۔ صَحْصَحَ الامرُ: ظاہر ہونا۔الصَّحْصَح و الصَّحْصَحَان جمع صَحَاصِح: نباتات سے خالی ہموار زمین۔التُرَّھات الصَّحَاصِح و تُرَّھات الصَّحَاصِح: خرافات زٹلیات۔الصُّحْصُح والصُّحْصُوح من الرجال: باریک بین آدمی۔المُصَحْصِح: کچی محبت رکھنے والا، بیہودہ گو۔

صحب: ۱۔ صَحِبَ ۔ صُحْبَةً و صَحَابَةً و صِحَابَةً و صَاحَبَ مُصَاحَبَةً ہُ: کا ساتھی ہونا، دوست ہونا کے ساتھ زندگی گزارنا۔أصْحَبَ الرجلُ: ساتھی والا ہونا، کے بیٹے کا بالغ ہو کر اپنے جیسا ہونا، بدقت مطیع و فرمانبردار ہونا کہتے ہیں۔اُصْحِبُہُ فھو مُصْحِبٌ: میں نے وہ کام [illegible] بن گیا اور اس نے مجھ سے کنی کترانا چھوڑ دیا۔ہُ الشیءَ: کو کیساتھ کر دینا۔۔۔ الزقَّ: مشک پر بال چھوڑ دینا۔تَصَاحَبَ الرجلان: باہم سفر کرنا۔معہ: کو ساتھی بنانا (عام بول چال) اِصْطَحَبُوا: ایک دوسرے کے ہمراہ ہونا۔اِسْتَصْحَبَ ہُ: کا ساتھی بننا، کو ساتھی بننے کے لئے کہنا، کو ساتھی بنانا۔۔۔ ہُ الشیءَ: کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لئے کہنا۔الشيءَ: کو ساتھ کر دینا۔الصاحِب (فا) جمع صَحْب و أصحاب و صُحْبَة و صِحَاب و صُحْبَان و صِحَابَة و صَحَابَة و أصَاحِیب أصحاب کی جمع: ساتھی، ساتھ زندگی گزارنے والا، گورنر۔یـ صَاحِ: کہتے ہیں یا صاحِ یعنی اے ساتھی۔الصَّاحِبَة جمع صَاحِبَات و صَوَاحِب: صاحب کا مونث۔بیوی۔الصحابة: نبی کریم ﷺ کے وہ ساتھی جنھوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا اور آپ کی صحبت میں رہے۔الصَّحَابِی: صحابہ کی طرف منسوب، ایک صحابی۔المُصَاحِب (فا): ساتھ رہنے والا، دشواری سے مطیع و فرمانبردار ہونے والا۔المُصْحَاب: مطیع، فرمانبردار۔المُصْحَب (مفع): اپنے آپ سے باتیں کرنے والا پاگل۔عودٌ مُصْحَب: وہ لکڑی جس کا چھلکا نہ اتارا گیا ہو۔ادیمٌ مَصْحُوبٌ: چمڑا جس کی اون یا بال نہ اتارے گئے ہوں۔المُصْحِب: مطیع، فرمانبردار۔ادیمٌ مُصْحِب: چمڑہ جس پر اون اور بال ہوں۔عودٌ مُصْحِب: نہ چھیلی ہوئی لکڑی۔ادیم مَصْحُوب: چمڑا جس سے اون یا بال نہ اتارے گئے ہوں۔عودٌ مَصْحُوب: نہ چھیلی ہوئی لکڑی کہتے ہیں: اِذْھَبْ مَصْحُوبًا و مُصَاحَبًا: صحیح سالم جاؤ۔

۲۔ صَحَبَ ۔ صَحْبًا المذبوحَ: ذبیحہ کی کھال کھینچنا۔

۳۔ أصْحَبَ فلانًا: کو محفوظ رکھنا۔۔۔ ہُ عن کذا: کو سے منع کرنا، روکنا۔اِصْطَحَبَ فلانًا: کی حفاظت کرنا۔صاحِبُ الشيء جمع صَحْب و أصحاب و صُحْبَة و صِحَاب و صُحْبان و صِحابة و صَحابة و اصحاب کی جمع أصاحیب: (چیز) کا مالک مثلاً کہتے ہیں: صاحبُ حماۃ: حمات کا حاکم (گورنر)

۴۔ أصْحَبَ الماءُ: پانی کا کائی والا ہونا۔

۵۔ تَصَحَّبَ منہ: سے شرم کرنا، حیا کرنا کہتے ہیں۔فلانٌ ما یتصَحَّب من شيءٍ: فلاں شخص بالکل شرم وحیا نہیں کرتا۔

صَحَّ علي: پر لاگو ہونا، کے حسب حال ہونا، سے متعلق ہونا، پر منطبق ہونا، پر صادق آنا۔عن: سے نتیجہ نکلنا ہے کہ۔ صح ل کے لئے ایک حقیقت ہونا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

صَحّ: حقیقت بن جانا۔ ل۔ کے حصہ میں آنا۔
صحّت عزیمته علی او صَحَّ عزمه علی: اس کا پختہ ارادہ تھا کہ اس کا ارادہ تھا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یصح الاعتماد علیه: یہ اسکی بنیاد کا کام دے سکتا ہے۔یصح ان یقال فیه: یہ اس کے بارے میں صحیح کہا جاتا ہے کہ...... صحّ فی الاذهان: درست کافی، معقول نظر آنا۔وزارة الصحة العمومیة: وزارت عمومی صحت۔المَحجر الصِحّی: قرنطینہ۔صحیحٌ لہ: یہ درست ہے کہ وہ۔او علی الاصح: یا زیادہ مناسب یہ کہنا ہوگا کہ المُصَحّح اسفلَهُ: زیرِ دستخطی۔ صحبة هذا: اس کے ساتھ منسلک ہے۔صاحب الامر: حاکم صاحب البواخر: جہازوں کا مالک۔ صاحب الجلالة: ہز مجیسٹی، اعلیٰ حضرت، جہاں پناہ، ولی نعمت۔جلالۃ الملک۔صاحب الدولة: وزیر اعظم کا لقب (سابق) صاحب الدَین: قرض خواہ۔صاحب الرِفعة: وزیر اعظم کا لقب (سابق) صاحب السجّادة: سجادہ نشین۔صاحب السعادة: پاشا کا لقب۔صاحب السماحة: صاحب امتیاز۔ صاحب السمو الملکی: اعلیٰ حضرت، والاحضرت شاہ، اصحاب الشان: متعلقہ لوگ، اہم بااثر لوگ۔ اصحاب الشُبُهات: مشکوک لوگ، بدنام لوگ۔ صاحبُ العِزہ: بے کا لقب۔صاحب العظمة: ہز مجیسٹی۔صاحب المعالی: کیبنٹ کے وزیر کا لقب۔صاحب العمل: ملازم رکھنے والا۔صاحب الغِبطة: سردار قبیلہ کا لقب۔صاحب الفضیلة: علماء دین اور شیوخ کا لقب جیسے الاظہر یونیورسٹی کا ریکٹر (پرنسپل، وائس چانسلر) یا پروفیسر صاحبان۔ صاحب الفکرة: کسی رائے کا مُختَرِع یا موجد۔ صویحبة جمع صویحبات: سہیلی۔مُصَحُوب ب: کے ساتھ منسلک، نتھی بھیجا جانے والا، کے ساتھ مہیا و فراہم کردہ۔

صحر ۱۔ صَحَرَ - صَحْرًا اللبنَ: دودھ ابالنا، پکانا۔ الصَحیرة: ابلا ہوا دودھ، جسے بعد میں گھی اور آٹے پر انڈیلا جاتا ہے۔

۲۔ صَحَرَ - صَحْراتهُ الشمسُ: دھوپ کا دماغ کو تکلیف دینا۔

۳۔ صَحَرَ - صَحیرًا و صُحَارًا الحمارُ: گدھے کا زور سے رینکنا۔

۴۔ صَحِرَ - صَحَرًا: سرخی مائل مٹیالا رنگ ہونا۔ صفت: اَصْحرُ م صَحْراء جمع صُحر۔ اِصْحارَّ اصْحِیرارًا: سرخی مائل مٹیالے رنگ والا ہونا۔ الصَحَر و الصُحرة: سرخی مائل مٹیالا رنگ۔المُصْحِر: (ح) شیر۔

۵۔ اَصْحَرَ: صحراء کی طرف نکلنا۔المکانُ: جگہ کا وسیع و کشادہ ہونا۔الأمرَ و بالامر: کو ظاہر کرنا کہتے ہیں۔ لا تُصْحِرهُ اُمرك: یعنی اپنا معاملہ اس پر ظاہر نہ کر۔ اَصْحِر مافی قلبك: جو بات تیرے دل میں ہے اسے ظاہر کر۔الصحراء جمع صَحارَی و صَحارٍ و صَحارِیّ و صَحْراوات: بیابان جس میں نبات نہ ہو۔زمین کا وہ ٹکڑا جس میں خربوزے، تربوز، کھیرے ککڑیاں وغیرہ بوئی گئی ہوں۔اس کا تلفظ اکثر "ة" سے کیا جاتا ہے۔چنانچہ کہتے "صحرة البطیخ": (خربوزوں کا باڑہ) عام بول چال کا لفظ ہے۔ المُصاحِر: اپنے مقابل سے بیابان میں لڑنے والا اور اسے دھوکا نہ دینے والا۔

۶۔ اُصْحَرَ الرجُلُ: کانا ہونا۔

۷۔ الصَحرة عند العامة: رات کے وقت بحری جہاز سے پھیلنے والی رطوبت۔الصَحراوِیَّة: ایک پودا۔

○ اَصحرم صحراء: ریگستان جیسا، ریگستان کی ریت کے رنگ کا، سنسان، اجاڑ، بے رنگ بے کیف، بے لطف۔صحراء جمع صَحارٍ و صَحارَی و صحراوات: ریگستان، بیابان، لق و دق صحرا سر و صحرا۔ صحراوی: ریگستانی، صحرائی، سنسان اجاڑ، بنجر، اراضی صحراویة: صحرائی، ریگستانی علاقے۔صَحّارة جمع صحاحیر: ڈبہ، صندوق، پیٹی، کریٹ۔

صحف: ۱۔ صَحَّفَ الکلمةَ: کوئی لفظ وغیرہ غلط پڑھنا یا لکھنا یا توڑ مروڑ کر بیان کرنا۔اَصْحَفَ الکتابَ: کتاب میں صحیفوں کو جمع کرنا۔تَصَحَّفَ لِقارِیٔ: غلط پڑھنا کہتے ہیں: تصحفت علیه الصحیفةُ: اخبار میں لفظ تبدیل ہو گیا یا غلط پڑھا گیا، یا غلط لکھا گیا۔ الصِحافة: اخبار نویسی۔عَالَمُ الصِحافة: اخبار نویس لوگ۔الصَحّاف: غلط پڑھنے والا، اخبار فروش۔ الصَحَفِیّ: پڑھنے میں خطا کرنے والا، کسی استاد کے بجائے کتابوں سے علم حاصل کرنے والا۔ و الصِحافِی: اخبار نویس۔الصحیفة جمع صحائف و صُحُف: لکھا ہوا کاغذ۔ورق، اخبار۔المَصْحَف و المِصْحَف و المُصْحَف جمع مصاحف: کتاب، مجلد کتاب۔المُصَحَّف: (مفع) کہتے ہیں: هذا اللفظ مصحف عن کذا: یہ لفظ اس سے بدلا ہوا ہے۔المُصَحّف: پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔

۲۔ الصَحْفَة جمع صِحاف: بڑا پھیلا ہوا پیالہ جو پانچ آدمیوں کو سیر کرنے کے لئے کافی ہو۔الصِحاف: پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے۔الصحیف: روئے زمین، سطح زمین۔صحیفة الوجه ای المحیّا جمع صحائف و صُحُف: چہرے کی کھال، چہرے کی کھال کا رنگ کہتے ہیں۔صُن صَحیفةَ وجهك: اپنے چہرے کے رنگ کی حفاظت کرنا۔

○ صَحَّفَ: نقطے غلط جگہ پر لگانا، کوئی لفظ، غلط پڑھنا، کسی لفظ کا غلط تلفظ کرنا، غلط ہجے کرنا۔ -- ہ: (رپورٹ وغیرہ) کو غلط پیش کرنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کو مروڑ تروڑ کر غلط معنی پہنانا۔تَصَحَّفَ: (لفظ کا) غلط پڑھا جانا۔غلط ہجے کیا جانا۔غلط تلفظ کیا جانا۔صَحْفَة جمع صِحاف: پیالہ، ڈش، ڈونگا، قاب، چولی چنگیر۔ صُحَیْفَة: پرچ (پیالے) صَحِیفَة جمع صُحُف و صَحائف: ورق (کتاب وغیرہ کا) صفحہ، اخبار، پرچہ، روزنامہ، رسالہ، سطح، ظاہری صورت، ظاہری حالت صُحُفی: اخبار کا، اخباری، پریس کا، صحافیانہ جمع صحفیون: اخبار والے، اخبار نویس۔مؤتمرٌ صُحُفی: پریس کانفرنس۔صِحافة: اخبار نویسی، اخباری کاروبار، پریس۔صِحافی: اخبار نویس، صحافتی، اخبار کا آدمی۔صِحافیة: خاتون اخبار نویس۔مَصْحَف و مُصْحَف جمع مَصاحِف: جلد، کتاب، مصحف شریف، قرآن مجید کا نسخہ۔ تصحیف: (نقطے وغیرہ) غلط جگہوں پر لگانا، غلط فہمی، غلط تلفظ، سہو قلم، (گرامر کی) غلطی، مروڑ تروڑ کر غلط معنی پہنانا، توڑ مروڑ کر بیان کرنا۔

صحل: صَحِلَ - صَحَلاً صوتُهُ: بیٹھی ہوئی اور سخت آواز والا ہونا، صفت صَحِل و اَصْحَل۔

○ صَحَل: بھرائی ہوئی یا کرخت آواز۔

صحم: اصْطَحَمَ الرجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔اِصحامَّ اصْحِیمامًا النباتُ: پودے کا بہت ہرا ہونا، زردی کا سبزی میں شامل ہونا۔صفت اَصْحَم م صَحْماء۔ - الارضُ: زمین کا متغیر نبات والی ہونا۔الزرعُ: کھیتی پر سردی کا اثر ہو کر خشک ہونے لگنا۔الصُحْمَة: بہت ہرا رنگ، سبزہ میں زردی کے آمیزہ کا رنگ۔

صحن: ۱۔ صَحَنَ - صَحْنًا ہ: کو مارنا کہتے ہیں۔صحنهُ عشرین سوطا: اس نے اسے بیس کوڑے لگائے۔ہُ برجله: کو پاؤں سے مارنا۔فرسٌ صَحُونٌ: لات مارنے والا گھوڑا۔

۲۔ صَحَنَ - صَحْنًا الرجُلَ: کو پیالہ میں کچھ دینا۔ہُ دینارًا: کو دینار دینا۔الصَحْن: (مص) جمع صُحُون: چھوٹا پیالہ، بڑا پیالہ، گھر کا اندرونی حصہ اور اسی سے ہے: فرسٌ واسع الصحن: وہ گھوڑا جس

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ـ کے کھروں کا اندرونی حصہ چوڑا ہو۔ مــن الارض: ہموار زمین۔ صــحــنُ الــدار: گھر کا صحن یا وسط۔ الــصــحنان: (مو) جھانجھ، ایک قسم کا باجا۔ صَـحْـنـا الاُذُنین: کانوں کے اندرونی حصے۔ الـمِـصْـحَـنَـه: بڑے پیالہ کی مانند ایک برتن۔

۳۔ صَحَنَ ـ صَحْنًا بینھم: کے درمیان صلح کرانا۔

۴۔ الصَحْنَی و الصَحْنَاۃ و الصَحْنَاء و الصحناءۃ: (ط) نمک لگی ہوئی چھوٹی مچھلی۔

۞ صَحْن جمع صُحُون: پیالہ، کاسہ، پلیٹ، رکابی، ڈش، کھانا، خوراک، احاطہ، صحن، سطح، ہموار زمین، ٹکیا، قُرص، صحن۔ الـــــدار: گھر کا صحن، آنگن، انگنائی۔ صــحــن الـسـحـایر: خاکستروان۔ عـلـی صـحـن الـــخــدّ: رخسار، گال پر یا رخسار، گال کی سطح پر۔ مـصْـحُـون: کچلا ہوا، پیسا ہوا، رگڑا ہوا۔ صـحـنـاۃ: سارڈین (ایک چھوٹی مچھلی) سارڈین کا اچار۔

صـحـا: ا۔ صـحـا ـ صَـحْـواً و صُـحُـوًّا و صَحِیَ یَصْـحَـی صَحاً الیومُ: دن کا بے بادل والا ہونا۔ (مطلع صاف ہونا) صفت صَـحْـوٌ و صَـاحٍ و مُصحٍ عوام کہتے ہیں۔ صحیت الدنیا: بارش رک گئی۔ اَصْحَی اِصْحَاءً الیوم: دن کا بے بادل ہونا۔ الـقـومُ: قوم کے لئے مطلع صاف ہونا۔ الـصَـحْـو: (مص) کہتے ہیں: سـمـاءٌ صَـحْوٌ و یوم صَحْوٌ یعنی آسمان اور دن دونوں بے بادل ہیں (یہ مصدر کے ساتھ صفت ہے) المِصْحَاۃ: پانی پینے کا پیالہ۔

۲۔ صَـحَا ـ صَـحْـوًا و صُـحُـوًّا و صَحِیَ یَصْحَی صحاً السکرانُ: نشہ میں مدہوش کا نشہ اتر جانا۔ ـ الرجُلُ: بچپن کی جہالت کو چھوڑنا۔ باطل کو ترک کرنا، کو افاقہ ہونا۔ صفت صاحٍ جمع صاحون و صُحاۃ و صاحیۃ جمع صاحیات و صواحٍ عام لوگ کہتے ہیں۔ صحی من نومہ یعنی وہ نیند سے بیدار ہوگیا۔ اَصْحَی اِصحاءً السکران: کا نشہ اترنا۔ الرجل: کو افاقہ ہونا۔ ـ ہُ: کو ہوش میں لانا۔ افاقہ دینا۔ المَصْحَاۃ: افاقہ کا سبب کہتے ہیں۔ فیــہ مِسْلاۃ من کرب الھمّ و مَصْحَاۃ من سکر الھم: اس میں غم سے تسلی اور غم کے نشہ سے افاقہ ہے۔

۞ صحا ـ صَحْوًا و صَحِیَ ـ صَحًا: (دن یا آسمان کا) صاف ہونا، چمکدار ہونا، بے بادل ہونا، پرسکون ہونا ــ صَحْواً و صُحُوًّا: ہوش میں آنا ـ من: نشہ سے آپے میں آنا، نشہ اتر جانا ـ من: (نیند سے) بیدار ہونا ـــــ الی ـ سے چوکس ہو جانا، چوکنا ہونا، ہوشیار ہونا، ـ سے آگاہ ہو جانا۔ صَحَّـوَہٗ: کو بیدار کرنا، جگانا، اٹھانا۔ اَصْــحَــی: (دن، آسمان کا) صاف، چمکدار، بے بادل، پرسکون ہونا۔ صــحــو: مطلع کا صاف ہونا، چمکدار ہونا، (موسم کا) پرسکون ہونا، صفائی وضاحت، شستگی، ذہن کی چوکسی، آگاہی، آگہی، شعور: چمکدار، پرسکون، بے بادل، دھوپ سے روشن (موسم) صَحْوۃ: بیداری، ہوش میں آنا، آگہی کی حالت۔ صاحٍ: چمکدار، پرسکون، بے بادل، صاف (موسم)، بیدار، چوکنا، چوکس، ہوشیار۔ (جمع صاحون و صُحاۃ)

صخ: ا۔ صَخَّ ـ صَخًّا الحدید بالحدید: لوہے کو لوہے پر مارنا۔ الصوتُ الاُذُنَ: آواز کا کان کو لگنا اور بہرا کر دینا کہتے ہیں۔ صخّ زیدٌ عمرا بِعَظِیمَۃٍ: زید نے عمر کو بڑی مصیبت سے دوچار کیا۔ ــ صَخًّا و صَخِیخًا الحدیدُ: لوہے کا کسی سخت چیز کی ضرب سے آواز نکالنا۔ الصَخّ و الصَخَّۃ: پتھر یا لوہے کی آواز (جب اسے ضرب لگائی جائے) آپ کہتے ہیں: ضربتُ الصخرۃ بحجر فسمعتُ لھا صَخَّۃً: میں نے چٹان پر پتھر مارے تو میں نے اس کی آواز سنی۔ الصاخّۃ: بہرا کر دینے والی سخت چیخ۔ مصیبت، قیامت۔ اا جائت الصاخّۃُ: جب قیامت آئے اور اس کی سخت چیخ سنائی دے۔ الصَخِیخ: پتھر یا لوہے کی آواز، ڈر کر نکلنے والی کوے کی آواز۔

۲۔ صَخّ ـ صَخًّا و صَخِیخًا لِحَدِیثِہٖ: کی بات سننے کے لئے کان لگانا۔ الصَخَّۃ: اسم مرہ، باری۔

صخب: صَخِبَ ـ صَخَبًا: چیخنا، شور مچانا۔ صَاخَبَ مُصَاخَبَۃً ہٗ: ایک دوسرے پر چیخنا۔ تصاخب القومُ: باہم شور کرنا اور ایک دوسرے کو مارنا۔ اصْطَخَبَ ت الـطـیرُ او الـضـفـادع: پرندوں یا مینڈکوں کا مخلوط آوازیں نکالنا۔ الصَخَب: (مص) شور۔ الصاخِب و الصَخِب و الصَخَّاب و الصَخُوب و الصَخْبَان و (جمع صـحـان کی صُخبان ہے)۔ چلانے والا، شور مچانے والا، مونث۔ صَخِبَۃ و صَخَّبَۃ و صخابۃ و صَخُوب و صَخْبَی۔

۞ صَخِبَ ـ صَخَبًا: چیخنا، چلانا، چیخ پکار کرنا، شور مچانا، زور سے بولنا، طیش میں آنا، بہت زوروں کا ہونا، زور سے بولنا، غل مچانے والا ہونا، پرشور ہونا، آسمان سر پر اٹھانے والا ہونا۔ علی: کو جھاڑ جھپاڑ کرنا۔ اِصْطَخَبَ: غل مچانا، غوغا کرنا، شور و غل کرنا، یا مچانا، ایک ہی وقت میں زور زور سے بولنا، دھاڑنا، گرجنا، ہنگامہ خیز ہونا، سخت اضطراب میں گونجنا، بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا۔ قوۃ صاخبۃ: آواز کی طاقت۔

صخد: صَخَدَ ـ صَخْدًا [illegible] جلانا۔ صَخِدَ صَخَداً و صَخَدَانًا الیومُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ اَصْخَدَ الحرُّ: گرمی کا سخت و تیز ہونا۔ الرجُلُ: گرمی میں داخل ہونا۔ الحرباءُ: گرگٹ کا دھوپ کھانا۔ الـصـاخدہ: دوپہر۔ الـصَـخْـدَان والصَخَدان: سخت گرم دن۔ صیخَدُ الشمس: سورج کی شعاع۔ ھاجرۃ صَیْخُود جمع صَیاخِید: سخت گرم دوپہر۔ صیاخید الحرّ: گرمی کی شدت۔ المَصْخَدہ جمع مَصَاخِد: دوپہر۔ المُصْطَخِد: سیدھا کھڑا ہونے والا۔

۲۔ صَخَدَ ـ صَخْدًا الصُرَدُ: لٹورے کا آواز کرنا۔

۳۔ صَخَدَ ـ صُخُودًا الیہ: کی طرف کان لگانا۔

صخر: ا۔ صَخَّرَہٗ: کو مطیع کرنا۔

۲۔ اَصْخَرَ المکانُ: جگہ کا بہت چٹانوں والی یعنی پتھریلا ہونا۔ صفت مُصْخِر: الصَخْرۃُ و الصَخَرۃُ جمع صَخْر و صَخَر و صُخُور و صُخُورَۃ و صَخَرات (ط ا) چٹان کہتے ہیں۔ فلان صَخْرۃُ الــوادی: فلاں وادی کی چٹان ہے یعنی ثابت قدم ہے۔ الصَخِر من الامکنۃ: چٹانی جگہ، وہ جگہ جہاں بہت سی چٹانیں ہوں کہتے ہیں۔ ھو صَخِر الوجہِ او اَصْخَرُ الوجہِ: وہ بے حیا ہے۔

۳۔ الصاخر: لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز۔ الصَاخِرۃ: پانی پینے کے لئے مٹی کا برتن۔

۞ صَخر اسم جمع واحد صخرۃ جمع صُخُور و صُخُورَۃ و صَخَرات: چٹانیں، ٹھوس چٹان، گھسے ہوئے یا گول مول پتھر، چٹانوں کی ترتیبیں۔ قُبَّۃُ الصخرۃ: چٹان کا گنبد (مسجد عمر بیت المقدس)۔ صَخْرِی: چٹانی، سنگلاخ۔ صَخِر: پتھریلا، پتھر کا ساخت، پتھریلا، سنگلاخ۔

صخف: صَخَفَ ـــ صَخْفًا الارضَ: زمین کھودنا۔ المِصْخَفۃ جمع مَصَاخِف: کھودنے کا آلہ، کدال، پھاوڑہ۔

صخم: صَخَمَ ـ صَخْماً تُہُ الشمسُ: دھوپ کا کسی کو جھلسا دینا۔ اصْطَخَمَ الرجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔

صخی: صَخِیَ یَصْخَی صَخًا الثوبُ: کپڑے کا میلا کچیلا ہونا، صفت۔ صخٍ۔ الصَخَاۃ: میل کچیل

صدّ: ا۔ صَدَّ ـ صَدًّا ہُ عن کذا: کو سے ہٹانا منع کرنا کہتے ہیں۔ صَدَّ السبیلُ: راہ میں حائل ہونا رکاوٹ وغیرہ کا۔ صَادَّہٗ: کی مدافعت کرنا کہتے ہیں: اخذ یصادُّہ و یضادُّہ: وہ اسکی مدافعت اور مخالفت کرنے لگا۔ اَصَدَّہ عن کذا: کو سے منع کرنا، روکنا۔ تَصَدَّدَلہٗ: کے درپے ہونا۔ الصَدَد: سامنے کہتے ہیں۔ داری

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

صَدَدَ دارِہ اوبِصَدَدِھا او علی صَدَدِھا : یعنی میرا گھر اس کے گھر کے قریب اور سامنے ہے۔ الصَدُود: روکنے والا۔

۲۔ صَدَّ ِ صَدًّا و صُدُودًا عنہ: سے اعراض کرنا، ہٹنا، منحرف ہونا، تجاوز کرنا، بے رغبت ہونا صفت صادّ جمع صُدَّاد مونث صادّۃ جمع صَواد و صُدَّاد۔ الصدد: قصد: (کہتے ہیں ھو صَدَدُك وہ تیرا مقصود ہے۔ نَحْنُ فی صددِ فلانٍ : ہم فلاں شخص کی بات کا مقصود ہیں)۔ میلان، رغبت (کہتے ہیں۔ لأقِیمَنَّ صَدَدك: میں تمہارے میلان کو ابھاروں گا)۔ کنارہ۔ الصُدَّاد جمع صَدائِد: پانی کی طرف جانے والا راستہ۔

۳۔ صَدَّ ِ صَدِیدًا من الشیء: چیخنا، چلانا۔ صَدَّدَ: تالی بجانا۔

۴۔ صَدَّدَ الجرحُ: زخم کا پیپ دینا۔ اَصَدَّ الجرحُ: زخم کی پیپ دینا، نکلنا، بہنا۔ الصدید: کچلہو، خون ملی پیپ۔ صدیدُ المِفضّۃ: پگھلی ہوئی چاندی۔

۵۔ اِصْطَدّتِ المرأۃُ: عورت کا پردہ کرنا۔ الصِداد جمع أصِدَّۃ: پردہ (عورت کا)۔

۶۔ الصَدّ و الصُدّ جمع اَصْدَادٌ و صُدُود: پہاڑ، وادی کا کنارہ، بلند بادل۔ الصُدَّاد جمع صَدَائِد (ح) سانپ، چھپکلی۔ الصَدُود: چھوٹی کرتی۔

○ لایَصُدُّ النظرَ: یہ آنکھوں کو برا نہیں لگتا یا آنکھوں کو ناگوار نہیں گزرتا، کی طرف دیکھنا بہت اچھا ہے۔ تَصَدَّدَ لِ: کا سامنا کرنا، کے روبرو ہونا، دوچار ہونا، کا سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، کے سامنے ڈٹ جانا۔

صدَدَ کے بالمقابل، کے سامنے۔ علی صددِ و بصددِ: کے بالقابل، کے سامنے۔ فی صدد: کے بارے میں، کے متعلق۔ فی ھذا الصدد: اس سلسلہ میں، اس کے بارے میں، اس کے متعلق، اس موقع پر۔ ھو بصددِ امر: وہ اس وقت، میں مشغول ہے۔ نَرْجِعُ الی مَانَحْنُ بِصَدَدِہ: اب ہم اپنے موجودہ معاملہ کی طرف لوٹتے ہیں، اب ہم اس موضوع کی طرف لوٹتے ہیں جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بحث کر رہے تھے۔ صَدِید: پیپ، ریم۔ صدیدی: پیپ دار۔

صدئ: ا۔ صَدِئَ - صَدَأً و صَدُؤَ - صَدَاءَۃً الحدیدُ: لوہے کو زنگ لگنا، لوہے کا زنگ آلود ہونا صفت صَدِئٌ م صَدِئَۃٌ - الشیءُ: کسی چیز کا رنگ میں زنگ کے مشابہ ہونا، زنگاری رنگ کا ہونا صفت أصْدَأ مونث صَدْآء۔ صَدَأً - صَدْأً و صَدَّأَ تَصْدِئَۃً الشیءَ: کا زنگ دور کرنا۔ المِرآۃَ: آئینہ کو صاف کرنا۔ أصْدَأہُ: کو گندا کرنا، فرسودہ کرنا، زنگ لگانا، مورچہ والا، جیسا بنانا۔ الصَدَأ: زنگ، مورچہ۔ الصَدِئ: زنگ آلود کہتے ہیں۔ رجع فلان صاغراً صَدِئًا: وہ ذلیل وخوار لوٹا جبکہ رسوائی اور کمینگی کا ٹیکہ اس پر لگ چکا تھا۔ الصُدْأۃ: زنگ کا رنگ، زنگاری رنگ

۲۔ صَدِیَ - صِدًا و صَدُؤَ - صَدَاۃً الرجُلُ: سیدھا کھڑا ہو کر دیکھنا۔ تَصَدَّأ لَہٗ: کے درپے ہونا۔

۳۔ رجُلٌ صَدَاءٌ: نازک جسم آدمی۔

○ صَدِیءَ - صَدَأً و صَدُؤَ - صَدَاءَۃً: زنگ آلود ہونا یا ہوجانا، زنگ لگنا۔ صَدَّأَ ہ: کو زنگ آلود کرنا، کو زنگ لگانا، گھس دینا۔ صَدَأ: زنگ کلونس، کالک کا دھبا۔ صَدِئ: زنگ آلود، گندا، پھٹا پرانا۔ مُصْدَأ: زنگ آلود، زنگ سے ڈھکا ہوا۔

صدح - صَدَحَ - صَدْحًا و صُدَاحًا الرجُلُ او الطائرُ: آدمی یا پرندہ کا گانے میں اپنی آواز کو بلند کرنا صفت۔ صادِح و صَدَّاح صَیْدَح و صَیْدَاح و صَدُوح و صَیْدَحِیّ و مِصْدَح و مِصداح۔ الصَدَح جمع صِدْحَان: عَلَم: خالی جگہ، پتھریلی پہاڑی۔ شیءٌ صَدَحٌ: سیاہ چیز۔ الصَدُحۃ والصُدْحَۃ و الصَدَحَۃ تعویذ کے طور پر استعمال کیا جانے والا منکا یا مہرہ۔

○ صَدَحَ - صَدْحًا و صُدَاحًا: گیت گانا، گنگنانا، گانا۔ ب: دھن بجانا، زمزمہ خواں ہونا۔ صَدَح: جھنڈا، علم پرچم۔ صَدَحَات: نغمات موسیقی۔

صدر: ا۔ صَدَرَ ِ صَدْرًا و مَصْدَرًا عن المکان وعن الماء: جگہ یا پانی سے واپس ہونا۔ الی المکان: جگہ کی طرف جانا۔ — الرجُلَ عن کذا: کو سے واپس کرنا۔ صَدَّرَہٗ: کو واپس کرنا۔ اَصْدَرَہ عن کذا: کو سے واپس کرنا۔ تَصادَرُوا علی ماشاؤوا: واپس آنا۔ الصدر: صادر کی جمع کا اسم پانی سے واپس آنے والے چوپائے، پانی سے واپسی، مسافر کی واپسی۔ الصادر (فا): واپس آنے والا، اس کا زیادہ اطلاق پانی سے واپس ہونے پر ہے۔ اس کا مقابل وارد ہے۔ یعنی پانی پر آنے والا اس سے ہے۔ مالہ صادر والاوارد: اس کے پاس کچھ نہیں۔ طریق صادِر: پانی سے واپسی کا راستہ۔ طریق واردٌ صادِرٌ: آنے جانے کا راستہ۔

۲۔ صَدَرَ - صَدْرًا ہٗ: کے سینہ پر مارنا۔ صُدِرَ: سینہ میں درد ہونا صفت مصدور۔ صَدَّرَہٗ: کو صدر مجلس بنانا۔ — الکتابَ بکذا: تحریر کو کی سرخی دینا، کتاب کا دیباچہ لکھنا، کتاب کو کے ساتھ متعارف کرانا۔ الفرسُ: گھوڑے کا آگے بڑھنا۔ تَصَدَّرَ: صدر مجلس میں بیٹھنا کہتے ہیں۔ تَصَدَّر المجلسَ: وہ اگلی نشست پر بیٹھا یا بٹھایا گیا۔ سینہ نکال کر بیٹھنا۔ الفرسُ: گھوڑے کا آگے ہونا۔ الصَدْر ج صُدُور: (ع ا) سینہ (کہتے ہیں فلان بعیدُ الصدر: فلاں شخص غیر مہربان ہے) ہر چیز کا سامنے سے اوپر کا حصہ، ہر چیز کا شروع (کہتے ہیں — أخَذَ الشیء بصَدْرِہ: یعنی اس نے اس چیز کو شروع سے لیا)۔ چیز کا ٹکڑا۔ اخذتُ صدرا منہ: میں نے اس کا ایک ٹکڑا لیا۔ الصدرُ الأعظم: وزیر اعظم۔ صدرُ القوم: قوم کا سردار۔ بناتُ الصدرِ: پریشانیاں، فکریں۔ ذات الصدر (طب): سینہ کی ایک بیماری۔ صُدُورُ الوادی: وادی کا بلند ترین حصہ، وادی کی سامنے کی جگہیں۔ الصُدْرۃُ من الانسان (ع ا): سینہ یا سینے کا بالائی حصہ۔ الصُدْرۃ: واسکٹ۔ الصُدْرِیَّۃ: واسکٹ۔ التصدیر: اونٹ کا تنگ۔ الصِدار: صدری، اونٹ کے سینہ کا نشان۔ الصَدَارۃ: تقدم، صدر اعظم کا عہدہ (بنی عثمان کی حکومت میں)۔ والصدیرۃ جمع صدائر: سینہ کا اوپر کا حصہ۔ الاصدر: مضبوط بڑے سینے والا۔ المُصَدَّر: چوڑے سینے والا، مضبوط سینہ والا (ح)، شیر، بھیڑیا، آگے بڑھنے والا گھوڑا۔ المَصْدُور (طب) سل کا مریض، جسے سینے میں تکلیف محسوس ہو۔

۳۔ صَدَرَ ُ صُدُورًا الامرُ: واقع ہونا، پیدا ہونا۔ منہ: سے ظاہر ہونا۔ — عنہ: سے پیدا ہونا، نتیجہ نکلنا۔ اصدر الامرَ: حکم جاری کرنا، کہتے ہیں۔ فلانٌ یُورِدُ ولایُصْدِر: یعنی وہ نہ تو کام شروع کرتا ہے اور نہ ہی اسے مکمل کرتا ہے۔ المَصْدَر جمع مَصادِر: نکلنے کی جگہ، جائے صدور، اسی سے ہے مصادر الافعال۔ کیونکہ مجرد افعال مشتقات کی اصل اور جڑ ہیں۔ رجل مُصدر: کام مکمل کرنے والا شخص۔

۴۔ صَدَّرَ السلعۃ: مال برآمد کرنا۔ أصدر الرجُلَ: کو لے جانا۔ التصدیر: (ملک کی مصنوعات) پیدا کردہ اشیاء کی دوسرے ممالک کو برآمد۔

۵۔ صادر علی الشیء وبہ: کا اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنا۔

۶۔ الأصْدَران: کنپٹیوں کی دو رگیں۔ جاء یضرب أصْدَرَیۃ: وہ خالی آیا۔

○ صدرِ ُ صُدُورًا من / عن: سے باہر نکلنا، کا نتیجہ ہونا، نکلنا، جاری ہونا، ظہور ہونا، پیدا ہونا، وجود میں آنا۔ — شائع ہونا، جاری ہونا، نافذ ہونا (حکم قانون وغیرہ) ظہور میں آنا، چھپنا طبع ہونا (کتاب) باہر جانا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(ڈاک)۔ الی: کے پاس جانا۔ ـــ: واقع ہونا، ہونا، عمل میں آنا۔ صدر عن الجد: سنجیدگی سے کام کرنا صدر عن ارادته: اپنے ارادہ پر عمل کرنا۔ صَدَّرَ ہ: کو بھیجا، ارسال کرنا، روانہ کرنا، برآمد کرنا، شائع کرنا (کتاب کو) دیباچہ لکھنا (کتاب کا)۔ ہ ب: کے ساتھ، کتاب کا تعارف کرانا، شروع کرنا۔ صَادَرَ ہ: کو گرفت میں لینا، قرق کرنا، ضبط کرنا۔ ہ: پر زور دینا، دباؤ ڈالنا، کو دبانا، کے راستہ میں رکاوٹیں ڈالنا۔ اُصْدَرَ ہ: کو بھیجنا، ارسال کرنا، برآمد کرنا، جاری کرنا (جیسے بونڈ بینک نوٹ وغیرہ) شائع کرنا (کتاب وغیرہ)، جاری کرنا، دینا (حکم وغیرہ) پاس کرنا۔ دینا (قانونی سزا وغیرہ) کہنا، بولنا ظاہر کرنا، اظہار کرنا (رائے وغیرہ کا) تَصَدَّر: بھیجا جانا، ارسال ہونا۔ -- ہ: کی صدارت کرنا، کا سربراہ ہونا، کی سربراہی کرنا، میں سامنے کی نشست حاصل کرنا۔ ل: کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، کے راستہ میں رکاوٹیں، کھڑی کرنا کے راستہ میں حائل ہونا۔ استصدر ہ (ای حکما) کسی قانونی فیصلہ یا سزا) کا باعث ہونا، حاصل کرنا۔ ـــ: (مرسوما) آرڈیننس جاری کرنا۔ صَدْر جمع صُدور: سینہ، (مرد یا عورت کا) دل کے سامنے کا حصہ، اگلا حصہ، سامنا، ماتھا، حصہ، پہلی نحاف کاری، رہنما، قائد، کمانڈر، آغاز، شروع، ابتداء، ابتدائی عرصہ، شروعات، نیا سویرا۔ صدر الدار مجلس کا صدر۔ صدر رحبٌ: سخاوت فیاضی، کریم النفسی، فراخدلی، کشادہ، دلی، وسیع النظری، وسیع المشربی، روا داری۔ بے تعصبی؛ صاف دلی، غیر جانبداری، بے لاگ پن۔ صدر الاسلام اسلام کا ابتدائی زمانہ، آغاز اسلام۔ صدرُ المکان: کمرہ کا سب سے پہلا حصہ۔ صدر النہار: سویرا، تڑکا، فجر، دن کا آغاز۔ ابو صدر لال چڑی۔ بنات الصدر پریشانیات، اندیشے۔ باب الصدر: سامنے کا دروازہ۔ ذات الصدر سینہ کی تکلیف، دل کا بنیادی حصہ، رازہائے سربستہ، بھید۔ رَحْبُ الصدر: فیاض، کریم النفس، فراخ دل، کشادہ دل وسیع، النظر، آزاد خیال، شکوک سے آزاد، بے جھجک۔ رحیب الصدر بمعنی رَحْبُ الصدر ضَیِّقُ الصدر ب: پر برہم، ناراض، غصے، غیر مطمئن، افسردہ دل، غمزدہ۔ منقبض الصدر اداس، دل شکستہ، نمگین، بددل، افسردہ، ناامید، مایوس، پژمردہ، دل شکستہ، پٹا ہوا، ہارا ہوا۔ مکانةُ الصدر اولین مقام، پیش روی، برتری اولیت۔ واسع الصدر بمعنی رَحْبُ الصدر، صدراً من الزمان: کچھ عرصہ۔ فی الصدر پیش منظر میں۔ سَخَّم بصدرہ: کو برہم کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، غصہ دلانا، برافروختہ کرنا۔ انشرحَ صدرُہُ: خوش ہونا، باغ باغ ہونا۔ صَدْرِیّ: سینہ کا۔ نَزْلَةٌ صَدْرِیَّة ورم زخرہ، نقمی ورم۔ صُدْرَہ واسکٹ، گلکار، سینہ بند صدری، باڈی، چولی۔ صُدَیری و صُدَیْرِیَة جمع صدیریات واسکٹ، صدری، بنیان، باڈی، چولی۔ صِدار بنیان، واسکٹ، باڈی، چولی۔ صَدارَة و صِدارَة پیش روی، برتری، صدارت، چیئرمین شپ، پہلا مقام، افضلیت، تفوق، وزارت عظمیٰ، وزیراعظم کا منصب، چانسلری یا مقام و درجہ۔ مَصْدَر جمع مصادر نقطہ آغاز، نقطہ ابتداء، اصل منبع، سرچشمہ، مصدر، اسم فعل، مطلق مفعول تصدیر: بھیجنا، ارسال کرنا، برآمد کرنا، برآمد، دیباچہ، پیش لفظ (کتاب کا) اجراء۔ مُصَادَرَة: گرفت کرنا، ضبط کرنا۔ اصدار برآمد کرنا، برآمد، اجراء، جاری کرنا، شائع کرنا، ایڈیشن، نشر واشاعت۔ مَصْرِف الاصدار: بنک اجراء۔ استصدار جاری کرنا۔ صادِر باہر جانے والا، نکلنے والا، جاری ہونے والا، ظہور ہونے والا، وجود میں آنے والا، جاری شدہ، شائع شدہ، برآمد کرنا، برآمد، پیداوار۔ الصادرات برآمدات، برآمدی سامان، اشیائے برآمد۔ مصدور: سینہ کی تکلیف میں مبتلا، دق میں مبتلا۔ مُصَدِّر: تاجر برآمد، برآمد کنندہ جمع مُصَدِّرُون

صدع: ا۔ صَدَعَ ۔ صَدْعًا الشیءَ: کو پھاڑنا مگر جدا نہ کرنا یعنی میں درز ڈالنا کو تڑقانا۔ ـــ القومَ: قوم میں تفریق ڈالنا۔ الامرَ: کو ظاہر کرنا۔ بالحق: حق کا کھلے طور سے اظہار کرنا۔ ـــ الامرَ بالحق: کا حق سے فیصلہ کرنا۔ ـــ صُدُوعًا الفلاةَ او النهرَ: صحرا یا دریا یا عبور کرنا۔ صَدَّعَ الشیءَ: کو پھاڑنا۔ ـــ الفلاةَ او النهرَ: بیابان یا دریا عبور کرنا۔ تَصَدَّعَ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا۔ ـ الشیءُ: پھٹنا کہتے ہیں۔ تصدعت الارضُ بالنبات: یعنی زمین پودوں کے نکلنے کی وجہ سے پھٹ گئی۔ اِنْصَدَعَ الشیءُ: پھٹنا۔ کہا جاتا ہے: انصدعت الارضُ بالنبات: زمین پودوں کے نکلنے کی وجہ سے پھٹ گئی۔ ـــ الصباحُ: صبح کا روشن ہونا۔ الصَّادِع (فا) قاضی۔ صبحٌ صادِعٌ: روشن صبح۔ الصَّدْع (مص) جمع صُدُوع دراڑ، پھٹن۔ الصِّدْع: دو حصوں میں پھٹی ہوئی چیز کا ایک نصف۔ لوگوں کا ایک گروہ۔ الصَّدْعَة جمع صَدَعات صدع کا اسم مرة کہتے ہیں: رایتُ بینهم صَدَعات: میں نے لوگوں میں خواہشات اور آراء میں اختلاف دیکھا۔ اُصْلِحوا مافیکم من الصدعات: اپنے آپس کے اختلافات کو دور کرو، متحد ہو جاؤ اور فرقہ فرقہ نہ ہو۔ الصِّدْعَة جمع صِدَع: بکریوں کا ریوڑ، دو برابر ٹکڑوں میں پھٹی ہوئی چیز کا نصف۔ الصَّدِیع: زرہ کے نیچے پہننے کا کپڑا۔ جمع صُدُع: زرہ کے نیچے پہننے کیکپڑے، پھٹا ہوا، صبح، پھٹا ہوا کپڑا۔ التصداع: تفریق۔

۲۔ صَدَعَ ۔ صَدْعًا فلانًا: کا قصد کرنا (اسکی فیاضی کی وجہ سے) ـــ فی الامر: کام کر ڈالنا۔ فی المکان: گزرنا (جگہ میں) کہتے ہیں: ھذا الطریق یصدع فی ارض کذا: یعنی یہ راستہ اس زمین سے گزرتا ہے۔ ـــ صُدُوعًا اللیلَ: رات کو چلنا۔ تَصَدَّعَت الارضُ بہ: وہ شخص فرار ہو کر زمین میں کہیں گم ہو گیا۔ جبلٌ صَادِعٌ لمبائی میں پھیلا ہوا پہاڑ۔ سبیلٌ صادِعٌ و وادٍ صادِعٌ: زمین میں پھیلا ہوا راستہ یا پھیلی ہوئی وادی۔ المَصْدَع جمع مَصادِع سخت زمین میں نرم راستہ۔

۳۔ صَدَعَ ۔ صُدُوعًا الی کذا: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ ہ عن کذا: کو سے روکنا منع کرنا۔ ـ رجلَه کا پاؤں پھسلنے سے موچ آ جانا (عام زبان میں) انصدعت رِجْلُه پاؤں میں موچ آ جانا۔

۴۔ صُدِعَ و صُدِّعَ: کو درد سر لاحق ہونا۔ صفت مصدوع۔ الصُّداع: سر کا درد۔

۵۔ صَدَّعَ خَاطِرَہ: کو ضرورت پوری کرنے کی تکلیف دینا۔ (عام بول چال)

۶۔ الصَّدْع: چھریرے بدن کا آدمی، مضبوط جوان، کہتے ہیں۔ الناسُ علیهم صَدْعٌ واحد: لوگ انکی عداوت پر متفق اور مجتمع ہیں۔ الصَّدَعُ دراڑ، پھٹن۔ صَدَعُ الحدید لوہے کا زنگ۔ المِصْدَع: چوڑا پھل کہتے ہیں: خطیبٌ مِصْقَعٌ مِصْدَعٌ: بلیغ خطیب۔

○ صَدَعَ ۔ صَدْعًا ہ کو پھاڑنا، جدا کرنا، کاٹ ڈالنا، میں دراڑ ڈالنا، کو توڑنا، میں دراڑوں کا باعث ہونا، رکاوٹ دور کرنا (مشکلات اور رکاوٹوں) پر غالب آنا، کو دور کرنا، پر قابو پانا۔ صدع بالحق: حق کا برملا اظہار کرنا۔ صدع بامر: کسی حکم کی تعمیل کرنا، پر عمل کرنا۔ صُدِعَ کو سر درد ہونا۔ صَدَّعَ ہ: کو سر درد میں مبتلا کرنا۔ خاطِرَہ کو جان بوجھ کر چھیڑنا، دق کرنا، ستانا، پریشان کرنا۔ صُدِّعَ: کو درد سر ہونا۔ تَصَدَّعَ: پھٹنا، جدا ہونا، ٹوٹنا، دراڑ آنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ تُصَدَّعَ چکرانا، تھرتھرانا، ہلنا۔ تصدع عن سے الگ ہونا، علیحدگی اختیار کرنا۔ اِنْصَدَعَ پھٹنا، جدا ہونا، ٹوٹنا، دراڑ پڑنا، غیر مہذب انداز میں تشریح کیا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جانا، صحیح ہونا۔صَدُوع جمع صُدُوع: شگاف، درز، دراڑ، تڑاقا، ٹوٹا۔صُدَاع: دردسر۔صَدُوع دراڑ، درز یا شگاف دار، ٹوٹا ہوا۔

صدغ: ۱۔صَدَغ۔ صَدْغًا هُ عن الامر: کو سے ہٹانا، موڑنا۔هُ: کی کجی درست کرنا۔صَدَغًا و صُدُوغًا الی الشیء: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔صَدُغ صَدَاغَةً الرجُلُ: کمزور ہوجانا۔الصَدَغ: ٹیڑھا پن، کجی، جھکاؤ۔الصدیغ: کمزور۔

۲۔صَدَغَ۔صَدْغًا هُ: کے کندھے سے کندھا ملاکر چلنا۔ ـــ صُدِغَ: کی کنپٹی میں درد ہونا۔صَادَغَ هُ: کے شانے سے شانہ ملاکر چلنے میں مقابلہ کرنا۔الصُدْغ جمع صِدَاغ: (ع) (۱) کنپٹی (۲) کنپٹی پر لٹکنے والے بال، کنپٹی۔الصداغ: کنپٹی پر نشان۔الصَدِیغ: تین دن کا بچہ۔الاصدغان: کنپٹی کے نیچے کی دو رگیں۔المِصْدَغَة: تکیہ۔بعیرٌ مُصَدَّغٌ و مَصْدُوغ: کنپٹی پر نشان زدہ اونٹ۔

۳۔صَدَغَ۔صَدْغًا النملةَ: چیونٹی کو مارڈالنا۔

صدف: ۱۔صَدَفَ۔صُدُفًا و صُدُوفًا: پھرجانا، جھکنا۔صُدُفًا عنه: سے اعراض کرنا، کترانا۔فلانًا: کو پھیر دینا، ہٹانا۔صَدِفَ۔صَدَفًا: نزدیک نزدیک رانوں اور دور دور سموں والا ہونا۔اَصدَفَ هُ عنه: کو سے پھیر دینا، ہٹادینا۔تَصَدَّفَ عنه: سے اعراض کرنا، کترانا۔الصَدَف: طرف، کنارہ، جانب، پہاڑ کا کنارہ۔ـــ فی الخیل: گھوڑوں کی رانوں کے درمیان کی نزدیکی اور سموں کا بعد۔الصُدُف و الصَدَف و الصُدُف: پہاڑ کا کنارہ۔الصَدَفَة: طرف کنارہ۔فرس اَصْدَف: وہ گھوڑا جس کی رانوں کے درمیان نزدیکی اور سموں میں فاصلہ ہو۔الصَدُوف: بہت اعراض کرنے والا، بہت کترانے والا، گندہ دہن۔المَصْدُوف: (مفع) مستور، پردہ میں چھپا ہوا۔

۲۔صَدَفَ۔صَدْفًا و صُدُوفًا هُ (عند العامه): سے اتفاقیہ مڈبھیڑ ہونا۔صَادَفَ هُ: سے ارادۃً اور اتفاقاً ملنا۔تَصَدَّفَ: تعرض کرنا۔ـــ الامرُ عند العامة: مطابق ہونا۔تَصَادَفا: باہم ملاقات کرنا۔الصِدْفَة جمع صِدَف: اتفاق۔

۳۔الصَدَف واحد صَدَفَة جمع اَصداف: سیپی۔الاصداف: سمندر کی لہریں۔صَدَفَةُ الاُذُن: (ع) کان کا جوف۔الصَدَفیات: (ح) پانی میں رہنے والے جانور جن کی ہڈیاں نہیں ہوتیں۔

○ صَدَف۔صَدْفًا و صُدُوفًا: اتفاقیہ ہونا۔صَادَفَ ہ / هُ: کو پانا۔هُ: سے ملنا۔ هُ: سے اتفاقاً، غیر متوقع طور پر ملنا۔ ہ / هُ: کو اتفاق سے پانا، سے ٹکرا جانا، مڈبھیڑ ہونا۔هُ: سے متفق یا موافق ہونا، اتفاقاً کے ساتھ ہی ہونا، بیک وقت ساتھ ساتھ ہونا، ایک ساتھ ہونا۔کسی متعین تاریخ کو پڑنا۔صادف أن: اتفاق سے ہوا یہ کہ۔صادف الاستحسان: کا پسندیدگی سے استقبال کیا گیا۔کو پذیرائی ملی۔صَادَفَ مَحلَّه: کو آسانی سے پالینا، کشادہ ہونا، آرام دہ ہونا، مناسب، برمحل اور بروقت ہونا۔تصادف: اتفاقاً ہونا۔صُدْفَةً: اتفاقاً۔بالصُدفة او بطریق الصُدفة: اتفاقاً۔مُصادَفَةً: اتفاقاً۔مصادِفٌ ل: کے برابر، کے متوازی، کے مطابق، موافق (جیسے ۴ جنوری مطابق ۴ کانون الثانی۔الرابع من ینایر المصادف للرابع من کانون الثانی)

صدق: ۱۔صَدَقَ۔صَدْقًا و صِدْقًا و مَصْدُوقَةً و تصداقًا: سچ بولنا۔فی وعده او وعیده: وعدہ پورا کرنا، دھمکیاں پوری کرنا۔هُ النصیحةَ او المحبَّةَ: کو بےلوث نصیحت کرنا، سے بےلوث محبت کرنا۔هُ الحدیثَ: کو سچی اطلاع دینا۔صَدَّقَ هُ: کو سچا ٹھہرانا، سچا سمجھنا۔صَادَقَ صِداقًا و مُصادَقَةً هُ: کا دوست ہونا۔هُ المودَّةَ: سے خالص دوستی کرنا۔تَصادقًا: ایک دوسرے سے دوستی کرنا۔ـــ الحدیثَ او المودَّةَ و فیهما: ایک دوسرے سے سچی بات کرنا اور سچی دوستی رکھنا۔الصَدْق جمع صُدُق و صُدُق و صَدْقون م صَدْقَة جمع صَدْقات: کامل شے کہتے ہیں رجلٌ صَدْقُ اللقاء و النظر: ملنے اور دیکھنے میں کامل شخص۔الصِدْق: سچ (کہتے ہیں هو رجل صِدْقٍ و صدیقُ صِدْقٍ: وہ سچا مرد اور دوست ہے) سنجیدگی، متانت۔نیةٌ صادقةٌ: خالص نیت۔المَصَداقَة: سچی دوستی۔الصَدُوق جمع صُدُق و صُدُق: ہمیشہ سچ بولنے والا۔الصَدیق جمع اَصدِقاء و صُدَقاء و صُدقان جمع: اَصادِق م صَدیقة: پیارا دوست مثل ہے صدیقك من صَدَقَك لا من صدَّقَك: دوست وہ ہے جو آپ سے سچ بولے وہ نہیں جو آپ کو سچا ٹھہرائے۔الصِدِّیق جمع صِدِّیقُون: بہت سچ بولنے والا، سچائی میں کامل، عمل سے اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا، بڑا نیک ہمیشہ سچا سمجھنے والا، حضرت ابوبکرؓ کا لقب جو خلفاء راشدین میں سے تھے۔التصدیق: (مص) تصدیق کرنا، تصدیق، توثیق۔کہتے ہیں اگر علم حکم سے خالی ہو تو تصور ہے ورنہ تصدیق، اسکی وضاحت یوں ہوگی کہ مثلاً ہم کسی جانور کی طرف دیکھیں اور یہ حکم نہ دیں کہ وہ جانور ناطق ہے یا غیر ناطق تو یہ دیکھنا تصور کہلائے گا لیکن اگر ہم فیصلہ دیں کہ جانور ناطق ہے یا ہنہنانے والا ہے تو ایسا دیکھنا تصدیق کہلائے گا۔عند المتکلمین والمنطقیین قابل تصور علم کی ایک قسم جسے بعض علم بھی کہتے ہیں۔المصداق: جو چیز یا جو شخص کسی شخص کی سچائی کا گواہ ہو۔المَصْدُوقة (مص) سچائی۔

۲۔صَدَقَ۔صَدْقًا و صِدقًا و مَصْدُوقَةً و تَصْداقًا فی الحملة: حملہ میں بہادری دکھانا۔کہتے ہیں۔صَدَقَ القتالَ و صدق فلانًا القتالَ: اس نے سخت جنگ کی اور سے سخت جنگ کی۔الصَدْق: (مص) جمع صُدْق و صُدُق و صَدْقون م صَدْقة جمع صَدْقات: سیدھا ٹھوس نیزہ وغیرہ کہتے ہیں رمحٌ صَدْقٌ و قناة صَدْقة: سیدھا ٹھوس نیزہ۔(رمح و قناة بمعنی نیزہ)۔الصِدْق: سختی، مضبوطی۔خَمْرٌ صادِقُ الحلاوة: بہت شیریں کھجور۔حملةٌ صادقة: سخت حملہ۔المِصْدَق: کہتے ہیں انه ذو مَصْدَق او ذو مِصْدَق: وہ بہادر جنگجو ہے یا تیز دوڑنے والا ہے وغیرہ۔

۳۔صَادَقَ علی الشیءِ: کو منظور کرنا، کی اجازت دینا (عام بول چال)۔المصادقة: کہتے ہیں فعله غبَّ مصادقةٍ: یعنی اس نے یہ کام معاملہ واضح ہونے کے بعد کیا۔

۴۔اَصْدَقَ الابنةَ: بیٹی کا مہر مقرر کرنا۔الصَدُقة و الصُدْقة و الصَدْقة و الصُدُقة و الصَداق و الصِداق جمع صُدُقات و صُدُق: عورت کا مہر۔

۵۔تَصَدَّقَ: خیرات دینا۔علی الفقیر بکذا: غریب کو کوئی چیز بطور خیرات دینا۔الصِدِّق: فضیلت، صلاح۔الصَدَقة جمع صَدَقات: خیرات۔

○ صَدَقَ۔صَدْقًا و صِدقًا: سچ کہنا، سچ بولنا، مخلص ہونا۔صدق ہ عن: کو کے بارے میں حقیقت بتانا۔صَدَقَ۔صَدْقًا و صِدقًا: سچا ثابت ہونا، صحیح نکلنا، صحیح ثابت ہونا۔ـــ علی: پر بالکل فٹ ہونا، منطبق ہونا، صادق آنا۔صدق وعده او صدق فی وعده: وعدہ پورا کرنا۔صدقه النصیحةَ: کو مخلصانہ مشورہ دینا۔صدقه الحُبَّ: سے سچی مخلصانہ محبت کرنا، بےلوث محبت کرنا۔صَدَّقَ ہ / هُ: کو قابل یقین سمجھنا۔هُ: کو سچا سمجھ کر قبول کرنا۔ہ / هُ: پر یقین کرنا، کو باور کرنا، پر یقین کرنا، پر اعتماد کرنا۔هُ: کو صحیح سمجھنا، کی صحت کا اعلان کرنا، کے صحیح یا قابل یقین ہونے کا اعلان کرنا۔ب: پر یقین کرنا۔ـــ علی: کی منظوری دینا، کی اجازت دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، کو ماننا، ہاں

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کہنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر دیکھنا، کو منظور کرنا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا کا ثبوت مہیا کرنا، کے لئے حقائق پیش کرنا۔لایُصَدَّقُ: ناقابل یقین، ناقابل اعتماد، غیر معتبر، ناقابل اعتبار۔صَدِق او کَذِب مانو یا نہ مانو۔صَادَقَ ہُ: سے دوست کا سا سلوک کرنا، سے دوستی رکھنا، کا دوست ہونا یا بن جانا، سے دوستی کا حق ادا کرنا۔علی: پر اپنی منظوری دینا، کو منظور کرنا، ماننا، اجازت دینا، منظوری دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، پسند کرنا، کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کی تصدیق کرنا، کا ثبوت مہیا کرنا، کے لئے حقائق پیش کرنا۔ علی (دستخطوں وغیرہ کی) تصدیق کرنا۔صَدَّقَ ھا: کا حق مہر مقرر کرنا۔تَصَدَّقَ علی (کو) خیرات دینا۔ علی ب: کو بطور خیرات کچھ دینا، کو بطور عطیہ کچھ دینا۔صِدقًا: خلوص سے واقعی، درحقیقت، حقیقتاً۔صَدَقَۃ جمع صَدَقَات: خیرات۔ خیراتی ٹیکس۔صدقۃ الفطر صدقۂ فطر۔صَداق و صِداق جمع صُدُق و اَصدِقَۃ: مہر۔صَدَاقَۃ جمع صَدَاقات: دوستی۔اَصدَقُ برھان علی: کا انتہائی قابل اعتماد یا بہترین ثبوت۔اَصدَقُ صدیق: انتہائی وفادار یا بہترین دوست۔مِصدَاق: تصدیق، توثیق، کسوٹی، معیار۔سُرعۃُ التصدیق خوش اعتقادی۔سریع التصدیق: خوش اعتقاد، ضعیف الاعتقاد۔مُصَدَّق: قابل یقین، قابل اعتماد۔غیر مُصَدَّق: ناقابل یقین۔مُصَدَّق علیہ رسمیا: قانونی صورت دیا ہوا، جائز قرار دیا ہوا، سرکاری طور پر تصدیق شدہ۔

صدم: اصَدَمَ ـِ صَدمًا ہُ: کو دفع کرنا، دھکیلنا، ہٹانا، کہتے ہیں صَدَمَہٗ امرٌ شدیدٌ: ایک سخت معاملہ اس پر آپڑا۔صَدَمَتْہُ حُمَیّا الکاس: اسے شراب سے نشہ چڑھ گیا۔صَادَمَ مُصَادَمَۃً ہُ: کو مارنا۔تَصَادَمَ و اصْطَدَمَ الفارسان: شہسواروں کا ایک دوسرے کو مارنا اور ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ میں حصہ لینا۔الصَّدْمَۃ: صدم کا اسم مرۃ: ایک دھکا ایک دفعہ کہتے ہیں صرعَہٗ بصدمۃ: اس نے اسے ایک دفعہ یا ایکی دھکے میں پچھاڑ دیا۔اعطاہ رزقَ شھرین صَدمَۃً: اس نے اسے دو مہینوں کی روزی ایک ہی مرتبہ دیدی۔رجل مِصدَم: جنگجو بہادر آدمی۔

۲۔الصِّدَام: (طب) جانوروں کی سر کی ایک بیماری کا نام۔الصَّدمَتَان و الصَّدِمتان: پیشانی کے دونوں جانب۔الاُصْدَم: وہ شخص جس کی پیشانی کے دونوں جانب سے بال اڑ گئے ہوں۔

صَدَم ہ / ھ: سے ٹکرانا، سے متصادم ہونا۔(موٹر، کار وغیرہ کا)۔صَدَمَ ب: (ٹرین کا کار سے) ٹکرانا، سے ٹکر ہونا۔صَادَمَ ہ / ھ: سے ٹکرانا، متصادم ہونا، سے مزاحمت کرنا، کی مخالفت کرنا، سے لڑنا، کا مقابلہ کرنا۔صُدِمَ ب: سے سخت دکھ پہنچنا، تکلیف ہونا۔تَصَادَمَ: ٹکرانا (گاڑیوں کا) مڈبھیڑ ہونا۔(فوجوں کا) اختلاف ہونا، متصادم ہونا (مختلف آراء کا)۔اصْطَدَمَ مع / ب: سے ٹکرانا، پر چڑھ دوڑنا۔اصطدم ب: سرنگ وغیرہ سے ٹکرا جانا۔ب: (غلطیوں پر) ناراض ہونا، پر کے خلاف احتجاج کرنا، کی وجہ سے ناکام ہو جانا۔صَدمَۃ جمع صَدَمات: دھکا، ریلا، جھٹکا، ہچکولا، ٹکر، تصادم، صدمہ، گھونسا، مکا، ضرب، چوٹ، ہنگامہ، ہلچل، گڑبڑ، رکاوٹ، مشکل۔صِدام: ٹکر، ٹکراؤ، گرنا، ٹوٹنا، ناکامی۔صدام وجدانی: دماغی، ذہنی، نفسیاتی نقاہت۔مصادمۃ جمع مصادمات: ٹکر، ٹکراؤ، تصادم۔تصادم: ٹکر، ٹکراؤ، برہمی، پریشانی، ہنگامہ، ہلچل، گڑبڑ، اضطراب (نفسیاتی) صدمہ۔اصطدام: ٹکراؤ، برہمی، پریشانی، نفسیاتی صدمہ۔

صدا: صَدَا ـُ صَدوًا و صَدّٰی بیدیہ: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔

صَدِی: اصَدِیَ ـَ یَصْدَی صَدًی: سخت پیاسا ہونا۔ صفت صَدٍ و صادٍ و صَدیان م صَدْیا و صادِیَۃ جمع صَوَادٍ: کہتے ہیں انا صَدیانٌ الی حدیثکلی احشاء صوادٍ الیک: مجھے تمہاری باتیں سننے کی سخت خواہش ہے۔الصّدٰی جمع اَصداء: سخت پیاس۔

۲۔صَدِیَ یَصْدَی صَدًی الشی ءُ: لمبا ہونا، طویل ہونا۔

۳۔صَدّٰی تَصدِیَۃً بیدیہ: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔اَصْدَی اصداءً: مرنا۔الجبلُ: پہاڑ کا گونجنا۔الصَّدَی جمع اَصداء: صدائے بازگشت۔ (اسی سے ہے۔اسرعُ من رجع الصدی: وہ صدائے بازگشت سے بھی زیادہ تیز ہے)۔انسانی لاش کہتے ہیں ھم الیومَ اعداء و ھم غداً اصداء: وہ آج دشمن ہیں کل لاشیں ہوں گے۔ یعنی مرجائیں گے۔صَمَّ صداہ: وہ ہلاک ہو گیا گویا کچھ نہیں سنتا کہ جواب دے۔اصَمَّ اللّٰہُ صداہ: اللہ اسے ہلاک کرے)۔دماغ، سر میں جو کچھ بھرا ہوا ہے۔(ح): ایک بڑے سر کا الو جو تاریک ویرانوں میں رہتا ہے۔ اسے ہامہ بھی کہا جاتا ہے۔ عربوں کا خیال تھا کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کے سر سے ایک الو پیدا ہوتا ہے جو اس کے سر پر یہ کہتا رہتا ہے مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ، تا آنکہ اس کے قاتل کو قتل کر دیا جائے۔

۴۔صادَی مُصَادَاۃً ہُ: کا مقابلہ کرنا، کے گرد چکر لگانا، کو چھپانا۔تَصَدَّی لہ: کے درپے ہونا، سامنے آنا۔للامر: کسی معاملہ کے لئے متوجہ ہونا۔الصَّدَی جمع اَصداء: تعرض کہتے ہیں منعت صداہ: اس کا تعرض روک دیا گیا۔

اصدی: گونجنا واپس مرتعش ہونا۔تَصدّی ل / الی میں مشغول رہنا، لگا رہنا، کی طرف متوجہ ہونا، کو تن دہی سے کرنا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑہ اٹھانا، کا آغاز کرنا۔ل: کی مخالفت کرنا، مزاحمت کرن، کا توڑ کرنا، کا دفعیہ کرنا، کو دشمن بنانا، بیری بنانا، کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا، کے راستہ میں حائل ہونا۔تَصدِیَۃ: تالی بجانا۔

صر: اصَرَّ ـُ صَرًّا الصُّرَّۃَ: تھیلی کا منہ باندھنا۔الدراھمَ فی الصُّرَّۃ: درہموں کو تھیلی میں رکھنا۔الناقۃَ و بالناقۃ: اونٹنی کے تھن باندھنا تاکہ اس کا بچہ دودھ نہ پی سکے۔الصّار (فا): شجر صار: گنجان درخت۔الصارّۃ جمع صوارٌّ: صار کا مونث۔الصَّرّ (ت): تھیلی میں بند رقم جو مختلف اداروں کو بھیجی جاتی ہے۔الصُّرَّۃ: ترش روئی۔الصُّرَّۃ جمع صُرَر: تھیلی، بٹوہ۔الصِّرار جمع اَصِرَّۃ: اونٹنی کے تھن باندھنے کی ڈوری۔الصَّرّار: صار کا اسم مبالغہ۔الصَّریرۃ جمع صَرائر: تھیلی میں رکھے ہوئے درہم۔المِصَرّ: بٹوہ۔المَصار: آنتیں۔المَصرور: (مفع) بندھا ہوا قیدی۔

۲۔صَرَّ ـُ صَرًّا الفرسُ اُذُنَہٗ و باُذُنِہ: گھوڑے کا سننے کے لئے کان کھڑے کرنا۔صَرَّرَ اُذُنَہٗ: سننے کے لئے کان کھڑے کرنا۔ت الناقۃُ: اونٹنی کا آگے بڑھنا۔اَصَرَّ الفرسُ اُذُنَہٗ و باُذُنِہ: گھوڑے کا سننے کے لئے کان کھڑے کرنا۔السنبلُ: خوشوں کا خار نکالنا۔الصَّرَر: جس کا واحد صَرَرَۃ: ہے۔ بالیاں جو اپنے خار نکال رہی ہوں۔

۳۔صَرَّ ـِ صَرًّا و صَریرًا الشی ءُ: چوں چوں کرنا۔الرجُلُ: زور سے چلانا۔ت الاُذُنُ: کان بجنا۔ریح صِرٌّ: سخت آواز والی ہوا۔الصَّرَّۃُ: شور و غل، چیخ و پکار، جنگ یا گرمی وغیرہ کی شدت۔الصِّرَّۃ: زور کی چیخ۔صرار اللیل: (ح) جھینگر۔الصَّرَّارۃ: (ح) سانپ کھانے والا ایک قسم کا عقاب۔ابو صُوَی: کے نام سے معروف ہے۔

۴۔صَرَّ ـِ صَرًّا و صَریرًا الرجلُ: پیاسا ہونا، پیاس لگنا۔الصّارّۃ جمع صوارّ: پیاس۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۵۔ صُرَّ النبات: پودے کو ٹھنڈی ہوا کا مار جانا۔ الصِرّ و الصِرَّة: ٹھنڈ۔ ریحٌ صِرٌّ: سخت ٹھنڈی ہوا۔

۶۔ اَصَرَّ علی الامر: پر جما رہنا، اصرار کرنا، اکثر برے معنی میں مستعمل ہے۔ کہتے ہیں۔ اَصَرَّ علی الذَنْب: وہ گناہ سے نہیں ٹلا۔ صِرّیٰ: کہتے ہیں۔ ھی منی صِرّیٰ: وہ میرا پختہ ارادہ ہے۔ یمینٌ صِرّیٰ: پختہ قسم۔ الصَرُور و الصارُور والصَرُورِیّ والصارُورِی: کنوارا یا جس نے حج نہ کیا ہو۔ الصَرارَة و الصَرُورَ و الصَارُورَة و الصَارُوراء: جس نے حج نہ کیا ہو یا شادی نہ کی ہو۔ واحد اور جمع دونوں کے لئے آتا ہے۔

۷۔ صَارَّ مُصَارَّةً علی کذا: کو پر مجبور کرنا۔

۸۔ الصَرَّة: جماعت، گروہ، تعویذ کے مہرے۔ الصارّة جمع صَوَارّ: ضرورت، حاجت۔ الصِرار جمع اَصِرَّة: بلند جگہ جہاں پانی نہ چڑھ سکے۔ الصَرارِیّ جمع صَرَارِیون: ملاح۔

۹۔ صَرْصَرَ الصُرَدُ او الصقرُ: لٹورے یا شکرے کا آواز نکالنا۔ الرجُلُ: زور سے چلانا۔ الصَرْصَر: (ح) مُرغ۔ من الریاح: تیز چلنے والی ہوا یا بہت ٹھنڈی ہوا۔ ـــ والصُرصُر جمع صَراصِر والصُرصور جمع صَراصِیر: (ح) جھینگر۔

۱۰۔ صَرْصَرَ الشیءَ: چیز کے منتشر اطراف کو جمع کرنا۔

۱۱۔ الصُرْصُور: کشتی۔

○ صَرَّ ـِ صَرًّا و صَرِیراً: (جھینگر کا) چیں چیں کرنا، چوں چوں کرنا، چہچہانا۔ (دروازہ کا) چرچرانا، چیخنا، چوں چوں چیں کرنا، چڑ چڑ کرنا، ناگوار شور کرنا، ناگوار آواز پیدا کرنا، خراش کی آواز دینا، دانت پیسنا، دانت کٹکٹانا، دانت بجنا۔ -- ہ: کا تسمہ باندھنا، کو رسی سے جکڑنا، باندھنا، کی مشکیں کسنا۔ ـــ ہ فی: روپیہ پیسہ بٹوہ میں دھکیلنا یا رکھنا۔ ـــ ہ / ب: کان کھڑے کرنا۔ صُرَّة جمع صُرَر: روپیہ پیسہ رکھنے کی تھیلی، بٹوہ، پلندا، گٹھری، گٹھر، پوٹلی، پیکٹ، ڈبیہ، بقچہ، پارسل۔ الصُرَّة یا صُرَّة الحرمین: فنڈ جو مختلف اسلامی ممالک حج کے قافلہ کے ساتھ بھیجا کرتے تھے تاکہ مکہ معظمہ اور مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، آج کل یہ فنڈ مصر اور تونس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ امین الصرة: صرّہ کا متولی جو اسکی سپردگی کا ذمہ دار ہے۔ صُرَّة النقود: بھیجی ہوئی رقم۔ صریر: چہچہانا۔ چوں کرنا، چیں چیں کرنا، ناگوار آواز سے چیخنا، چڑ چڑ کرنا۔ صَرار یا صرار اللیل: جھینگر۔ صریرة: بٹوہ میں رکھے ہوئے سکے۔ اصرار علی: پر ثابت قدمی، استقلال، مستقل مزاجی، اصرار۔ سَبْقُ الاصرار: پہلے سے ہی قائم کردہ سوچ سمجھ، دانستگی، ضد، خودرائی، خودسری، سرکشی۔ مُصِر: پر ڈٹا ہوا، جما ہوا، مُصِرّ: پختہ ارادہ کئے ہوئے، باعزم۔ الصِرْب: صربیا، صرب، صربیا والے، صرب باشندے۔ صِربی: صربیا کا۔

صرب: ۱۔ صَرَبَ ـِ صَرْبًا: کاٹنا، دودھ کو ترش بنانا۔ پیشاب یا دودھ کو روکنا۔ الصبیُّ: بچہ کا کئی دن پیشاب نہ کرنا۔ صَرِبَ ـَ صَرَبًا اللبنُ: دودھ کا تھنوں میں جمع ہونا۔ صَرَّبَ: نہایت ترش دودھ کھانا یا پینا۔ اِصْطَرَبَ اللبنَ فی الوطب: دودھ کو ترش کرنے کے لئے برتن میں تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا۔ الصَرْبُ و الصَرَب: بہت ترش دودھ واحد صَرْبَة و صَرَبَة۔ الصِرب: غریب عربوں کے تھوڑے سے گھر۔ الصَرِیب جمع صُرْب: ترش دودھ۔ المَصْرُوب (مفع): جمع کیا ہوا کھٹا دودھ۔ المِصْرَب جمع مَصَارِب: وہ برتن جس میں دودھ جمع کیا جاتا ہے۔

۲۔ صَرَبَ ـِ صَرْبًا: کمانا۔ اَصْرَبَ الیه مالا: کو مال دینا۔

۳۔ اِصرأبَّ الشیءُ: چیز کا صاف اور چکنا ہونا۔

۴۔ الصَرْب والصَرَب واحد صَرْبَة و صَرَبَة: سرخ گوند، ببول کا گوند۔

صرج: صَرِّج الحوضَ: حوض کو چونا مٹی ملا کر بنانا۔ الحوض بالنورة: حوض پر چونے کی قلعی کرنا۔ الصاروج: چونا مٹی ملا ہوا (فارسی)

صرح: ۱۔ صَرَحَ ـَ صَرْحًا الامْرَ: کو ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ صَرُحَ ـُ صَراحَةً و صُرُوحَةً: صاف ہونا، خالص ہونا، واضح ہونا صفت صریح جمع صُرَحَاء م صَرِیْحَة اسی سے ہے۔ رجُلٌ صریحُ النسب: خالص نسب والا آدمی۔ جاءَ بنو فلانٍ صریحة: بنو فلاں آئے، جن (کے نسب) میں دوسرے لوگ گڈ مڈ نہیں ہوئے۔ صَرَّح الامْرَ: کو واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ الامرُ: واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ المتکلّمُ: متکلم کا صاف صاف کہنا۔ بما فی نفسه: متکلم کا اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنا۔ النهارُ: دن میں بادل ہٹ کر دھوپ نکل آنا۔ ـــ الخمرُ: شراب کی جھاگ دور ہونا۔ ایک مثل ہے: صَرَّحَ الحقُّ عن محضِهِ: یعنی حق پوشیدگی کے بعد واضح ہو گیا۔ ت السَنَةُ: کال پڑ جانا اور سختی اور تنگی کے علاوہ کچھ نہ رہنا۔ صَارَحَ صِرَاحًا و مُصَارَحَةً ہ: سے صاف صاف کہنا، کہتے ہیں۔ شتمه مُصَارَحَةً او صراحًا: اس نے اسے رو در رو گالی دی۔ بما فی نفسه: دل کی بات کو ظاہر کر دینا۔ اَصْرَحَ الامرَ: کو بیان کرنا۔ تَصَرَّحَ الزبدُ عن الخمر: شراب پر سے جھاگ دور ہونا۔ انْصَرَحَ الحقُّ: حق ظاہر ہونا، منکشف ہونا۔ الصَرْح: (مص) جمع صُرُوح: قصر، محل، ہر بلند عمارت۔ الصَرْحَة جمع صَرَحات: اسم مرة، سخت زمین۔ صَرْحَةُ الدار: گھر کا صحن۔ خرج لهم صَرْحَةً: وہ نمایاں طور پر ان کے سامنے آیا۔ الصَرْح والصَرَاح والصِراح والصُراح: ہر خالص شئے کہتے ہیں۔ کأسٌ صراحٌ: پیالہ جس کے مسالہ میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ الصَراحَةُ والصُرُوحَةُ: خلوص، وضاحت۔ الصُراحِیةُ من الخمر: خالص شراب کہتے ہیں۔ کذبٌ صُرَاحِیَةٌ: کھلا جھوٹ جسے سب لوگ جانتے ہیں۔ اَتَاهُ بالامر صُراحِیةً: وہ اس کے پاس خالص معاملہ لیکر آیا۔ الصُراحِیّ: واضح، ظاہر۔ الصُرَاحِیَّةُ: شراب کا برتن۔ یومٌ مُصَرِّحٌ و مُصَرَّحٌ: وہ دن جس میں ابر نہ ہو، صاف مطلع والا دن۔

۲۔ صَرَّحَ الرامی: تیر انداز کا نشانہ خطا کرنا۔

○ صَرُحَ ـُ صَرَاحَةً و صُروحةً: خالص، بے ملاوٹ اور صاف ہونا یا ہو جانا۔ صَرَحَ ـَ و صَرَّحَ ہ: کو واضح کرنا، کی تشریح کرنا، توجیہ کرنا۔ صَرَّحَ ہ: کو واضح کرنا، کی تشریح کرنا، توجیہ کرنا، کی توضیح کرنا۔ -- ب: کا اعلان کرنا، کو وضاحت سے کہنا، بیان کرنا، اظہار کرنا، کے متعلق بیان دینا۔ ب / عن: کے متعلق کھل کر کہنا، کے متعلق واضح ہونا، صریح ہونا، قطعی ہونا۔ ـــ عن / ب: کو معلوم ہونے دینا۔ ل ب: کو کی اجازت دینا، کچھ عطا کرنا۔ -- ب: کا لائسنس دینا، کا پرمٹ دینا، لائسنس دینا۔ صَارَحَ: کھل کر کہنا۔ ب: کے متعلق کھل کر کہنا، کے متعلق واضح ہونا، صریح ہونا، قطعی ہونا، کو علی الاعلان کہنا، کو معلوم ہونے دینا۔ ہ أن: کو بیان دینا کہ۔ اَصْرَحَ ہ: کو واضح کرنا، کی توضیح کرنا، کی تشریح کرنا، توجیہ کرنا۔ تَصَارَحَ: واضح ہونا، ظاہر ہونا، آشکار ہونا، معلوم ہونا، پتہ چلنا۔ انصرح: واضح ہونا، ظاہر ہونا، آشکار ہونا۔ صُراح: خالص، بے ملاوٹ کا واضح، بین صاف۔ صریح، ظاہر، غیر مبہم، کھلا۔ اَصْرَح: زیادہ، خالص، واضح اور مخلص۔ تصریح جمع تصریحات و تصاریح: بیان، اعلان، اجازت (سرکاری) پرمٹ، لائسنس۔

صرخ: ۱۔ صَرَخَ ـُ صُراخًا و صریخًا: زور سے چیخنا، فریاد کرنا، عوام کہتے ہیں۔ "صرخ" له یعنی اسے پکارا۔ تصرَّخ: بتکلف چیخنا۔ تَصَارَخَ القومُ: ایک دوسرے کو چلا کر پکارنا اور مدد چاہنا۔ اصْطَرَخَ الرجُلُ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

زور سے چیخنا۔ — القومُ: ایک دوسرے کو چلا کر پکارنا اور مدد چاہنا۔ اِسْتَصْرَخَ هُ: کو چیخنے پر اکسانا، ۔سے مدد طلب کرنا۔ الصارخ: مرغا۔ الصَّارِخة: صارخ کا مونث، استغاثہ۔ فریاد رسی، داد خواہی، داد خواہی کی آواز۔ آپ کہتے ہیں: سمعت صارخةَ القوم: یعنی میں نے لوگوں کی آواز سنی جو مدد کے لئے پکار رہے تھے۔ الصَّرَّاخ: بہت چیخنے والا (ح) مور۔ الصاروخ: (ا ع) راکٹ (Rocket)، میزائل (missile) الصریخ (مص) جمع صُرَخاء: فریادرس، دادخواہ۔

۲۔ صَرَخَ ۔ صُراخًا و صریخًا القومَ: لوگوں کی فریاد رسی کرنا، مدد کرنا۔ الصارِخة: مدد۔ الصریخ: (مص) جمع صُرَخاء: فریادرس، دادخواہ۔

۞ صَرَخَ ۔ صُراخًا و صریخًا: چیخنا، چلانا، پکارنا، چیخ مارنا، چلا کر کہنا، مدد کے لئے پکارنا۔ صرخ ب: کو بلانا۔ -- علی: کو پکارنا۔ -- فی / فی وجهه: کو پکارنا، چیخ کر بلانا کو زور سے کہنا۔ اِسْتَصْرَخَ: مدد کے لئے چلانا۔ -- ہ: کو مدد کے لئے بلانا۔ صَرْخَة جمع صرخات: چیخ، زور کی چیخ، مدد کی پکار۔ صَارُوخ جمع صواریخ: راکٹ، سائرن۔ صاروخ عابرُ القارات: بین البراعظمی منجنیق میزائل۔ قنبلة صاروخية: راکٹ بم۔ گائڈڈ میزائل صارخ: بھڑکیلا، زرق برق (رنگ) خیرہ کن (رنگ، روشنی) اکھڑ، ناشائستہ، بازاری، غیر مہذبانہ، پست، شور مچانے والا، پرشور، آسمان سر پر اٹھانے والا، چلانے والا، پکارنے والا۔

صرد: ۱۔ صَرِدَ ۔ صَرْدًا السهمُ: تیر کا نشان پر نہ لگنا، تیر کا نشانہ پر لگنا (ضد) تیر کا نشانہ پر بیٹھنا۔ صَرَدَ ۔ صَرْدًا الرامی السهمَ: تیرانداز کا تیر کو ٹھیک نشانہ پر بٹھانا۔ اَصْرَدَ السهمُ: تیر کا نشانہ خطا کرنا۔ — الرامی السهم: تیرانداز کا تیر کو ٹھیک نشانہ پر بٹھانا۔ الصَّرَد: بھالے کی کیل جس میں نیزہ لگایا جاتا ہے۔ الصارِد (فا) سهمٌ صارِدٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔ سهمٌ مِصْراد و سهمٌ مُصَرِّدٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔

۲۔ صَرِدَ ۔ صَرَدًا الرجُلُ: آدمی کا سردی برداشت کرنے میں مضبوط ہونا، سردی برداشت کرنے میں کمزور ہونا (ضد) الصَّرْد: سردی، پہاڑ میں اونچی جگہ۔ یوم صَرْدٌ جمع صُرُود: ٹھنڈا دن کہتے ہیں۔ مات صردًا: یعنی وہ سردی کی شدت سے مر گیا۔ ارضٌ صَرْدٌ جمع صُرُود: سرد زمین۔ اس کے مقابل جُرُوم ہے جس کا معنی گرم خطے (زمین کے) ہے الصَّوارِد: سرد ہوائیں۔ الصَّرِد من الرجال جمع صَرْدَى: سردی برداشت کرنے والا، سردی برداشت نہ کرنے والا (ضد) یوم صَرِدٌ: بہت سرد دن۔ الصُّرّاد و الصُّرَّيْد: پانی سے خالی پتلا بادل۔ نعجة صُرَّيْدة جمع صرائد: سردی کھائی ہوئی بھیڑ۔ المِصْراد: سردی برداشت کرنے والا، سردی برداشت نہ کرنے والا (ضد)

۳۔ صَرِدَ ۔ صَرْدًا السقاءُ: سے جھاگ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنا، کہتے ہیں: صَرِدَ قلبي عنه: میرا دل اس سے کھنچ گیا۔ صَرَّدَ الشيءَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ العطاءَ: بخشش کم دینا۔ — الرجُلَ: کو تھوڑا پانی دینا جس سے وہ سیر نہ ہو۔

۴۔ الصَّرْد: ہر خالص شئے (کہتے ہیں۔ سقاه الخمرَ صَرْدًا: اس نے اسے خالص شراب پلائی۔ اَحَبَّهُ حُبًّا صَرْدًا: اس نے اس سے بے لوث محبت کی۔) (ا ع): بڑا لشکر۔ الصَّرَد (ا ع): بڑا لشکر۔ الصُّرَد جمع صِردان: موٹے سر سفید پیٹ اور سبز پیٹھ کا ایک پرندہ جو چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے، لٹورا۔ الصَّرِد من الخیل جمع صَرْدَى: وہ گھوڑا جس کی پیٹھ زین سے لگ گئی ہو۔ الصُّرَدان (ع ا): زبان کے نیچے کی دو رگیں۔ المِصْراد: درخت سے خالی زمین۔ المُصْطَرِد: سخت غصہ والا۔

۞ صَرْد: سخت سردی (کی لہر) صُرَّاد: بہتے یا اڑتے ہوئے بادل۔ صُرَّيْد: بہتے یا اڑتے ہوئے بادل۔

صرط: الصِّراط جمع صُرُط: راستہ (یونانی) الصُّراط: لمبی کاٹنے والی تلوار۔

صرع: ۱۔ صَرَعَ ۔ صَرْعًا و صِرعًا و مَصْرَعًا ہُ: کو زمین پر گرانا۔ صُرِعَ الشجرُ: درخت کا کاٹ کر ڈالا جانا۔ صَرَّعَ ہُ: کو زور سے گرانا۔ صَارَعَ صِراعًا و مُصارَعةً ہُ: سے کشتی لڑنا۔ تَصَرَّعَ لصاحبه: اپنے ساتھی کے آگے عاجزی کرنا کہتے ہیں۔ ما زلت اتصرَّع له والیه حتی اجابني: یعنی میں برابر اس سے عاجزی کرتا رہا حتی کہ اس نے میری بات مان لی۔ تَصَارَعَ و اصطرع الرجلان: باہم کشتی لڑنا۔ اِنْصَرَعَ: پچھڑنا، گرنا۔ الصِّرع جمع اَصْرُع و صُرُوع: کشتی لڑنے والا کہتے ہیں۔ هما صرعان: وہ دونوں باہم کشتی لڑنے والے ہیں۔ الصُّرْعة۔ صرع کا اسم مرة۔ الصُّرَعة: جسے لوگ اکثر پچھاڑ دیں۔ الصُّرَعة: بردباری۔ حِلم۔ -- و الصَّرَّاع و الصُّرَّاعة و الصِّرِّيع: جو لوگوں کو اکثر پچھاڑ دیتا ہے [illegible] کشتی لڑنے والوں کو پچھاڑ دیں۔ الصِّراعة: کشتی لڑنے کا فن۔ الصروع جمع صُرُوع بمعنی صَرَّاع۔ الصَّرِیع جمع صَرْعَی: پچھاڑا ہوا، مجنون۔ (بات صریع الکاس: یعنی اس نے مجنون ہو کر رات گزاری) جمع صُرُوع: درخت کی جھکی ہوئی شاخ۔ المَصْرَع: (مص) پچھاڑنے کی جگہ، اکھاڑہ۔

۲۔ صَرَعَ ۔ صَرْعًا و صِرْعًا و مَصْرَعًا الشِعْرَ او الباب: شعر کو دو مصرعوں اور دروازہ کو دو کواڑوں والا بنانا۔ صَرَّعَ الشعرَ او الباب: شعر کو دو مصرعوں یا دروازہ کو دو کواڑوں والا بنانا۔ الصَّرع جمع اَصْرُع و صُرُوع: مثل، مقابل، قسم حالت کہتے ہیں۔ هو صرعَ کذا: وہ اس کے مقابل ہے۔ الصَّرعان: رات اور دن، صبح و شام کہتے ہیں: اتیته صَرْعَی النهار: یعنی میں صبح و شام اس کے پاس آیا۔ هو ذو صَرْعین: یعنی وہ دو رنگ کا ہے۔ ترکتهم صَرْعَین: میں نے انہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہوئے چھوڑا۔ الصِّرع: (مص) جمع اَصْرُع و صُرُوع: مثل، قسم حالت۔ الصَّرْعة: حالت کہتے ہیں: یفعله علی کل صَرْعة: وہ اسے ہر حال میں کرتا ہے۔ المصراع من الباب جمع مصاریع: دروازہ کا ایک پٹ، عوام کی زبان میں (دَرْفة) — من الشِعر: شعر کا ایک مصرعہ (نصف بیت)

۳۔ صُرِعَ: مرگی کی بیماری والا ہونا۔ الصَّرع جمع اَصْرُع و صُرُوع: (طب) مرگی، عوام کے نزدیک سخت درد سر۔ الصَّرِیع جمع صَرْعَی: مجنون۔ المَصْرُوع: (مفع) غیر محتاط، بہکا ہوا (عام بول چال)

۞ صَرَعَ ۔ صَرْعًا و صِرعًا و مَصْرعاه: کو نیچے گرانا، زمین پر پچھاڑنا۔ صُرِعَ: مرگی والا ہونا، کو مرگی کا دورہ پڑنا، پاگل ہونا یا ہو جانا۔ صَارَعَ هُ: سے کشتی لڑنا، لڑنا۔ تصارع: ایک دوسرے سے کشتی لڑنا۔ اِنصرع: پاگل ہونا یا ہو جانا۔ صَرْع: مرگی صُرع: لگام rein صَرِیع جمع صَرْعَی: زمین پر گرایا ہوا، مرگی والا، پاگل دیوانہ۔ صَرِیع ب: کا شکار۔ سقط صریعًا: (لڑائی میں) مارا جانا۔ صریعُ الشراب: شراب کا عادی۔ صریع الکری: نیند سے مغلوب۔ مَصْرَع جمع مَصَارِع: میدان جنگ، تباہی، خاتمہ، بربادی، ستیاناس، موت، مہلک حادثہ، جان لیوا واقعہ، جسم کا عضو رئیس (جس کا زخم یا چوٹ موت کا باعث ہو سکتی ہے) مِصْراع جمع مَصَارِیع: دروازہ کا ایک پٹ۔ صفائح المصراع: دروازہ کا منقش تختہ۔ الباب مفتوح علی مصراعیه: دروازہ چوپٹ کھلا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہے۔صِراعَ: کشتی، کشتی کا مقابلہ لڑائی، جدوجہد کشمکش۔
اصطراع: لڑائی، جدوجہد کشمکش، نزاع، لڑائی جھگڑا،
آویزش، مباحثہ، قیل وقال۔مَصروع: زمین پر
گرایا ہوا، پٹخا ہوا، پچھاڑا ہوا، مرگی والا، پاگل، دیوانہ۔

صرف: ۱۔صَرَفَ ۔صَرْفًا ہُ: کو واپس کرنا، ہٹانا۔
الکلمۃَ: کلمہ پر جر و تنوین لانا کہتے ہیں۔صرف اللّٰہ
قُلوبَھم: اللہ ان کے دلوں کو گمراہ کردے۔صَرَّف
ہُ: صَرَفَہ: کا مبالغہ۔۔۔ اللّٰہُ الریاحَ: اللہ تعالیٰ کا
ہواؤں کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دینا۔ہُ
فی الامر: کے سپرد کوئی کام کرنا۔صَارَفَ نَفسَہٗ عنِ
الشیء: اپنے آپ کو کسی چیز سے باز رکھنا۔اَصْرَفَ ہُ
عن کذا: کو سے دور کرنا، ہٹانا۔تَصَرَّفَ فی
الامر: کسی معاملہ کا خود مختاری سے انتظام کرنا،
بندوبست کرنا یا اسے چلانا۔ت بہ الاحوالُ: گردش
ہائے زمانہ کا کسی پر قابو پالینا۔اِنْصَرَفَ الرجُلُ
واپس ہونا یا باز رہنا۔ت الکلمۃُ: کلمہ کا منصرف
ہونا۔اِصْطَرَفَ: کسب معاش کے لئے چلنا پھرنا۔
استصرف اللّٰہ المکارِہَ: اللہ سے دعا کرنا کہ وہ تکالیف
دور کردے۔الصَّرْف (مص): ایک علم کا نام جس
میں کلمات عربیہ کے صیغوں کی وضع وہیت سے بحث
کی جاتی ہے۔صرفُ الدھر و صُرُوفُہٗ: زمانہ کی
گردشیں یا حادثات۔الصَّرْفة: ایک منکا کو تعویذ کے
لئے استعمال کرتے ہیں۔(فلك). چاند کی ایک
منزل۔الصَّرْفان والصِرفان: رات اور دن۔
الصَّرَفان: موت۔الصرّاف والصَّرْفی: علم صرف
جاننے والا۔الصَّرِیف والمَصْرُوف: درخت کا
خشک شدہ حصہ۔الصَّرِیفۃ: مونث جمع صُرُف
وصِراف و صریف: درخت خرما کی خشک شاخ۔
تصاریف الدھر: زمانہ کی گردشیں اور حادثات۔
المُتَصَرِّف: ایک صوبہ کا حاکم۔المُتَصَرِّفِیَّۃ: صوبہ،
گورنری کا عہدہ۔

۲۔صَرَفَ ۔صَرْفًا الدنانیر: دیناروں کو درہموں یا
دوسرے دیناروں سے بدلنا۔المالَ: مال خرچ کرنا۔
صَرَّفَ الشیءَ: چیز کو بیچنا۔۔۔ الماءَ: پانی جاری
کرنا۔الدراھمَ: درہموں کو بدلنا۔الکلامَ: بات
سے بات نکالنا۔صَارَفَ ہُ: کا مبادلہ کرنا۔اصْطَرَفَ
الدراھمَ: درہموں کو بدلنا۔آپ کہتے ہیں۔
اصطرفتُ ھذہ الدراھم بدینار: یعنی میں نے یہ
درہم ایک دینار سے تبدل کئے۔الصَّرْف: فضیلت کہا
جاتا ہے لہ علیّ صَرْفٌ: اس کو مجھ پر فضیلت ہے۔
صَرْفُ المالِ: مال کا خرچ کرنا۔الحدیثِ او
الکلامِ: کلام یا حدیث میں زیادتی اور اسکی تحسین
(آرائش)۔الصَّرْفَۃُ: اسم مرۃ۔الصِرَافَۃ: صراف
کا پیشہ۔الصَّرَّاف و الصَیْرَف والصَیْرَفی: نقدی
کی تجارت کرنے والا۔

۳۔صَرَفَ ۔صَرْفًا الشرابَ: شراب میں آمیزش نہ
کرنا یا خالص شراب پینا۔صَرَّفَ الخمرَ: خالص
شراب پینا یعنی بغیر آمیزش کے۔الصِرْف: ہر خالص
چیز، یعنی آمیزش کے بغیر چیز، سرخ گوند۔الصَرِیف.
خالص چاندی۔والمصروف: ہر خالص چیز۔

۴۔صَرَفَ ۔صَرِیفًا البابُ: دروازہ کا کھولنے یا بند
کرنے پر چر چرانا۔بنابہ: دانت پیسنا، دانت پیسنے پر
کٹکٹاہٹ کی آواز سنائی دینا۔الصَرُوف: وہ اونٹ
جس کے دانت پیسنے کی آواز آئے۔صریفُ الباب:
دروازہ کی چر چراہٹ۔صَرِیفُ القلم: قلم چلنے کی
آواز۔

۵۔الصَرْفَۃ: اونٹنی کو صبح کے وقت دوہ کر دوسری آنے والی
صبح تک چھوڑ دینا۔الصَرَفان: تانبا، سیسہ۔

○ صَرَفَ ۔صَرفًا: مڑنا۔ہ/ ہ عن. کو سے موڑنا، ہٹانا،
پھیرنا۔ہ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا، دور رکھنا، برگشتہ
کرنا، بیگانہ کرنا، سے موڑنا، پھیرنا، خیال ہٹانا، توجہ
ہٹانا۔ہ الی: (توجہ، نگاہ) کی طرف پھیرنا۔ہ: کو
رخصت کردینا، برطرف کرنا، دور بھیجنا، کو چلتا کرنا۔ہ
علی: کے لئے روپیہ وغیرہ خرچ کرنا۔علی: کا
خرچ چکانا، خرچ ادا کرنا، کی ادائیگی کرنا۔ہ ل: کو روپیہ
ادا کرنا۔۔۔ ہ. کوئی چیز جیسے ٹکٹ جاری کرنا، کچھ جیسے
پرمٹ لکھنا۔۔۔ ہ فی / الی / ل: پر (وقت، کوشش
وغیرہ) صرف کرنا، نذر کرنا، وقف کرنا، مخصوص کرنا۔
ہ فی: پر یا کچھ کرتے ہوئے وقت گزارنا، خرچ کرنا۔
۔۔۔ ہ: (روپیہ) تبدیل کرنا۔۔۔ ہ کی گردان کرنا۔
صرف النظر عن: سے نظر ہٹانا۔موڑنا، پھیرنا، کو نظر
انداز کرنا، کی پروانہ کرنا، کا لحاظ نہ کرنا، پر کوئی توجہ نہ
دینا، پر غور نہ کرنا۔صرف ۔صریفًا: چرچرانا، چوں
چوں کرنا، ناگوار شور کرنا۔صَرَّفَ ہ: پانی بہانا، نکالنا۔
۔۔۔ ہ: بھیجنا، جلدی کرنا (کاروبار) ختم کرنا، کا دیوالہ
نکالنا۔ہ: روپیہ تبدیل کرنا۔۔۔ ہ: مال تجارت کا منڈی
لانا، کو پھٹکل بیچنا، تقسیم کرنا، پھیلانا، فروخت کرنا، بیچنا۔
ہ فی: کو میں کھلی چھٹی دینا۔۔۔ ہ: (فعل) کی گردان
کرنا، اسم کو منصرف بنانا۔تَصَرَّفَ: آزادی سے عمل
کرنا، کام کرنا، (پر) انتظام کرنے کا حق رکھنا۔فی میں
آزادی سے حرکت کرنا، کسی پابندی کے بغیر کام کرنا، کو
آزادی سے چلانا، کا آزادی سے انتظام کرنا۔

تَصَرَّفَ تصرفًا کیفیاً فی: من مانی کرتے
رہنا۔انصَرَفَ: جانا۔عن: سے دور جانا، سے
انحراف کرنا، تجاوز کرنا، کو ترک کرنا۔: بہنا۔الی: توجہ
کی طرف مبذول کرنا، کچھ کرتے رہنا، کو تن دہی سے
کرنا، کسی کام میں لگ جانا۔۔۔: جاری ہونا، ضروری
ہونا۔اِنْصَرَفَ الی نفسہ: اپنے آپ کو تنہا کرنا،
علیحدہ کرنا، الگ تھلگ کرنا۔انصرف یفعل: کچھ
کرنے لگنا۔صروف و صروف الدھر: زمانہ کے
مصائب، آفات، ادبار، نحوست۔محطۃ الصرف.
پاور سٹیشن، ڈرینج سٹیشن، پمپنگ اسٹیشن۔سِعر الصرف:
نرخ مبادلہ۔ممنوع الصرف: غیر منصرف۔
بصرف النظر عن: سے قطع نظر کے باوجود۔صَرْفیات.
ادائیگیاں۔صریف: چیں چوں کرنے والا، چرچراتا
ہوا۔صَرَّاف: نقدی کی تجارت کرنے والا، خزانچی،
زرشمار، خازن، معتمد، ساہوکار۔صَرَّافۃ: خاتون
خزانچی۔صرافۃ التذاکر: خاتون ٹکٹ ایجنٹ۔
صَیْرَف جمع صَیَارِف: نقدی کی تجارت کرنے والا،
خزانچی، زرشمار، خازن۔صَیْرَفی: نقدی کی تجارت
کرنے والا، خزانچی، زرشمار، خازن۔صَرِیْفَۃ جمع
صَرَائف. نرسلوں کی چٹائی سے بنی ہوئی جھونپڑی۔
مَصْرِف جمع مَصَارِف: گندے پانی کے نکاس کا
نالہ، کھائی، نالی، بینک، دفتر ادائیگی، زرشمار کی
کھڑکی (بینک میں)۔تصاریف الدھر: زمانہ کے
نشیب و فراز، تغیرات۔تصریفُ الشؤن: معاملات
کا تصفیہ، یا انتظام۔تصرفات: اقدامات، ترتیبات،
قواعد، ضوابط۔تصرف مُنْجَز: فوری طور پر موثر
ضابطہ۔حسن التصرف: اختیار۔مطلقُ التصرف:
کام نبٹانے کا غیر محدود حق رکھنے والا۔بتصرف:
آزادانہ۔تحت تصرفہ: کے ہاتھ میں، کے سپرد کی
تحویل میں۔وضع شیئًا تحت تصرفہ: کوئی چیز
کسی کے تصرف میں دینا۔تصرفات الزمن: زمانہ
کے نشیب و فراز، تغیرات۔مصروف (الی): کے
لئے وقف۔: خرچ کی ہوئی رقم، خرچ جمع مصروفات
و مصاریف: اخراجات۔مصروف البرید و
مصاریف البرید: محصول ڈاک، ٹکٹ۔مصروف
الجیبْ: جیب خرچ۔خالص المصاریف: بغیر
محصول ڈاک، مشینی ٹکٹ لگا ہوا۔وَفَی المصاریف:
اخراجات کے لئے کافی ہونا، اخراجات ادا کرنا۔
مصروف من الخدمۃ: ملازمت سے برخاست کیا
ہوا، سبکدوش کیا ہوا۔المُنْصَرِف: خرچ کی ہوئی رقم،
اخراجات۔مُنْصَرَف: روانگی، رخصت، باہر جانا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لا مُنْصَرَفَ عنه : ناگزیر، اٹل، ہو کر رہنے والا۔
مُنْصَرَفهم : انکی روانگی پر، جب وہ روانہ ہوئے مخی
منصرف النهار : دن کے اختتام پر۔
صرق: صَرْقَعَ أصابعَهُ : انگلیاں چٹخانا صرقاعةُ
المقلاع : گوپھن کا سرا جو ہوا میں جھٹکنے پر آواز دیتا
ہے۔
صرم: احصَرُمَ ۔صَرَامَةً الرجلُ : آدمی کا بہادر ہونا۔
تصَرَّمَ الرجُلُ : بہادری کرنا الصارِم (فا) جمع
صَوَارِم : بہادر (ح) شیر رجلٌ صارِمٌ : کسی کام کو
کرتے رہنے والا، عام لوگ کہتے ہیں حاکم صارم:
سخت گیر حاکم حَكَمٌ صارِمٌ : سخت حکم رجُلٌ
صرامةٌ : خودرائے آدمی، اپنی رائے کا پکا، اپنے کاموں
میں لگا رہنے والا شخص عزمٌ صريم : اٹل حکم الصريمَة
جمع صرائم : عزیمت الصَيْرَم : پکی رائے والا۔
۲ حصَرَمَ ۔صَرْمًا و صُرْمًا الحبلَ : رسی کاٹنا الشیءَ : کو کاٹنا فلانًا : کو چھوڑ دینا، کی گفتگو بند کرنا ۔۔۔
الخیّاطُ الثوبَ : درزی کا کپڑے کو سکیڑنا فلانٌ
عندنا شهرا : فلاں شخص نے ہمارے ہاں ایک ماہ
قیام کیا حصَرُمَ ۔صَرَامَةً السیفُ : تلوار کا کاٹ
دار ہونا حصَرِمَتْ أذُنُهُ : کان کا جڑ سے کٹنا حصَرَّمَ
ۂ : صَرَمَه کا مبالغہ حصارَمَ مُصارَمَةً ۂ : سے علیحدہ
ہونا انصرَمَ النخلُ : کھجور کے چننے کا وقت قریب
آنا الرجُلُ : محتاج ہونا تصَرَّمَ و انْصَرَمَ : کٹنا،
ٹوٹنا ات السنَةُ : سال کا ختم ہونا، گزر جانا حصارَمَ
القومُ : باہم قطع تعلق کرنا اصطَرَمَ الشیءَ : کو کاٹنا۔
الصُرْمُ (مص) : قطع تعلق الصِرْم جمع صرام و
أصارم و أصاريم و صُرمان : جماعت، مکانوں کا
بلاک، قسم الصِرمة قسم جمع صِرَم : اونٹوں کا
گلہ، بادل یا چاندی کا ٹکڑا الصارم جمع صوارم
شمشیر بران الصُّرام : مصیبت، جنگ، لڑائی رجُلٌ
صُرامٌ : کاٹنے کی طاقت رکھنے والا الأصرم م
صرماء جمع صُرْم : جس کے کانوں کے کنارے کٹے
ہوئے ہوں المُصْرِم : مفلس، بہت بال بچے والا۔
الأصْرَمان : رات اور دن (ح) بھیڑیا، کوا کہتے ہیں:
ترکته بوحش الأصرمین : میں نے اسے اس بیابان
میں چھوڑا جہاں صرف بھیڑیے اور کوے پائے جاتے
ہیں المصْرَماء : اصرم کا مونث، بے آب بیابان (ح)
کم دودھ والی اونٹنی المصْرُوم : شمشیر براں، اچھی
طرح کاٹنے والا المصريم : کٹا ہوا، صبح، رات یا اس
کا حصہ۔ دودھ پینے سے روکنے کے لئے بکری کے بچہ
کے منہ میں لگائی ہوئی لکڑی، وہ زمین جس پر سے فصل
کاٹ لی گئی ہو، کٹائی کے بعد غلہ کا انبار، ریت کا قطعہ
کہتے ہیں افعی صريم : ریتلے علاقہ کا زہریلا
سانپ جاء صريمَ سحر : وہ نامراد و ناامید لوٹا۔
صريما الليل : رات کا اول اور آخر کا حصہ الصريمة
جمع صرائم : رات کا ایک حصہ الصَيْرَم : مصیبت،
دن میں ایک بار کا کھانا۔
۳ الصَرْم : کھال (چرم کا معرب ہے) الصِرْم جمع
أصْرام و أصارم و أصاريم و صُرمان : چمڑے کا
موزہ، عوام اسے صرمایہ کہتے ہیں الصَرّام : کھال
فروش، چرم فروش الصَرْماء : ہانڈی المَصْرِم :
جلد سیلاب لانے والی تنگ جگہ۔
ب صرُم ۔صَرامةً : تیز ہونا، سخت ہونا۔
صرَم ۔ صَرْمًا و صُرْمًا ہ : کو کاٹنا، الگ کرنا، علیحدہ کرنا،
جدا کرنا ۂ : کو چھوڑ دینا، سے الگ ہو جانا، سے علیحدہ
ہو جانا، سے علیحدگی اختیار کرنا صَرَّمَ ہ : کو کاٹنا، الگ
کرنا، علیحدہ کرنا حصَرَّمَ : کم ہونا، گھٹنا، سمٹنا، گزرنا۔
ماضی ہو جانا، گزری ہوئی بات ہو جانا، ختم ہو جانا (وقت
کا) انْصَرَمَ : گزرنا، ماضی ہو جانا، گزری ہوئی بات
ہو جانا، ختم ہو جانا (وقت کا) الصُرْم : جدائی، علیحدگی۔
صِرْمَة جمع صِرَم : اونٹوں کا گلہ حصرامة : تیزی
شدت، سختی، سخت گیری، مخالفت، دشمنی، عناد۔
صَريمة : گھوڑے کی لگام حصارِمَة : کشیدگی،
رنجش، قطع تعلقی، نفرت، دشمنی، مخالفت، معاندت۔
صارِم : تیز، سخت، سخت گیر منصرِم : گزرا ہوا
(وقت) صِرمة جمع صِرَم : جوتا صرماية جمع
صُرمایات و صرامی : (شام میں) سرخ یا پیلے چمڑے
کی جوتی، جوتیاں۔
صرن: الصُرْنَاية : (مو) بانسری کی قسم کا ایک باجہ، شہنائی
(فارسی)۔
صرا: صَرَا ۔صُرُوًّا اليه : کی طرف دیکھنا۔
صری: احصَرَى ۔صَرْيًا الشیءَ : کو ہٹانا، کو دور کرنا
کہتے ہیں صَرَى اللّٰهُ عنه الشرَّ : اللہ تعالیٰ اس
سے برائی کو دور رکھے صَرَى بولَه : کا پیشاب روک
دینا فلانًا : کو منع کرنا، بچانا، کی ہلاکت سے خلاصی
کرنا بينهم : کے درمیان فیصلہ کرنا۔
۲ حصَرَى ۔صَرْيًا الشیءُ : بلند ہونا، پست ہونا (ضد)
۔ القومَ : لوگوں سے آگے نکلنا عنهم : سے پیچھے رہ
جانا (ضد)
۳ حصَرِيَ ۔ يَصْرَى صَرًى الماءُ : پانی کا زیادہ دیر
رکے رہنے سے متغیر ہو جانا۔ اللبنُ : دودھ کا مزہ بدلنا۔
فلانٌ : کسی کا کسی ... عمر غائب ...
قید ہونا الدمعُ : آنسو کا آنکھ میں ڈبڈبانا۔ واصْرَى
تِ الناقةُ : اونٹنی کے تھنوں میں دودھ اتر آنا صَرَّى
تصْرِيَةً الشاةَ : بکری کا دودھ زیادہ بنانے کے لئے
تھن میں روک دینا اور نہ دوہنا الصَرى : چیز کا بقیہ۔
۔۔۔ والصِرَى : زیادہ ٹھہرا ہوا پانی، کہتے ہیں لبن
صَرِيٌّ : عرصہ دراز بلا ہوا دودھ الصارِيَة : وہ کنواں جس
کا پانی زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو۔
الصَرَاة والصُرَّي والمُصَرّاة من الشاء او
النوق : وہ بکری یا اونٹنی جس کو کئی روز تک نہ دوہا گیا ہو
تاکہ دودھ تھنوں میں جمع ہو جائے۔
۴ الصَاري جمع صُرَّاءٌ و صَوارِيّ و صارِيُّون
ملاح، جمع صَوارٍ : بادبان کا ڈنڈا، مستول الصارِيَة
الصاري کا مونث۔
ب صاري العَلَم : پرچم والا کھمبا۔
صصل: الصاصَل : ایک سفید پھولوں والا پودا۔
صطب: المِصطب : لوہار کی نہائی المِصْطَبَة و المَصْطَبَة
چبوترہ۔
ب مِصْطَبَة : گھر کے اندر کھلی جگہ بنا ہوا اونچی بنچ جمع
مصاطب۔
صطح: المِصْطَح جمع مَصاطِح : بے برگ و گیاہ صحرا،
کھلیان۔
صطر: صَطَرَ ۔صَطْرًا و صَيْطَر و المُصطار بمعنی
سطر و سيطر و المُسطار ۔۔
صطع: المِصْطَع : فصیح و بلیغ۔
صطم: الأُصْطُمَّة : چیز کا بڑا حصہ، جمع ہونے کی جگہ، وسط
(الأُصْطُمَّة) : (الأُسْطُمَّة کی طرح)
صعّ: احصَعْصَعَ القومَ : لوگوں کو متفرق کرنا ۔۔۔
الشیءَ : کو حرکت دینا، ہلانا تصَعْصَعَ : متحرک ہونا،
ہلنا، متفرق ہونا کہتے ہیں صَعْصَعَ بهم الدهرُ :
زمانہ نے ان کو بکھیر دیا، تتر بتر کر دیا تصَعْصَعَتْ
صفوفهم : انکی صفیں اپنی جگہ قائم نہیں رہیں۔
الصَعْصَع : متفرق۔
۲ حصَعْصَعَ من فلان : سے خوف زدہ ہونا تصَعْصَعَ
الرجُلُ : بزدل ہونا، ذلیل و تابع ہونا۔
۳ حصَعْصَعَ رأسَهُ بالدهن : سر کو تیل سے چکنا کرنا۔
۴ الصَعْصَع و الصُعْصُع جمع صَعاصِع : (ح) ایک
چتلا پرندہ۔
صعب: صَعُبَ ۔صُعُوبَةً عليه الأمرُ : پر کام کا دشوار
ہونا صفت صَعْبٌ م صَعْبَة جمع صِعاب ۔صَعَّبَ
ۂ : کو دشوار بنانا حصاعَبَ مُصاعَبَةً ۂ : پر سختی کرنا۔
اصْعَبَ الأمرُ : کام مشکل ہونا، دشوار ہونا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الشیءَ: کومشکل پانا۔ الجملَ: اونٹ پرسواری نہ لینے کی وجہ سے اس کا بے قابو ہوجانا۔ تَصَعَّبَ: مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ ـــــ الامرَ: کودشوار و مشکل بنادینا۔ تَصَاعَبَ: باہم سختی کرنا۔ اِسْتَصْعَبَ: دشوار ہوجانا۔ ـ الشیءَ: کومشکل اور دشوار پانا۔ الصَعْب: مشکل، دشوار، خوددار (ح) شیر۔ الصَعُوبُ جمع صُعُب: دشوار۔ الصُعْبُوب: مشکل، دشوار۔ المَصْعَب جمع مَصَاعِب و مَصَاعِیْب: سانڈ، سرکش گھوڑا کہتے ہیں۔ جِمالٌ مَصَاعب و مَصَاعیب: سرکش اونٹ (جمع) المَصَاعِب: سختیاں، مشقتیں۔

○ صَعُبَ ـ صُعُوبَةً علی: کے لئے سخت ہونا، مشکل ہونا، پریشان کن ہونا، سخت برا ہونا، ناگوار ہونا۔ صَعَّبَ ہ ل: کو کے لئے سخت بنانا، مشکل بنانا، کو کے لئے مشکل اور دشوار چیز کے طور پر پیش کرنا۔ تَصَعَّبَ: مشکل ہوجانا۔ ہ: کو سخت اور مشکل بنانا۔ تَصَاعَبَ: مشکل ہونا، ناگوار ہونا۔ اِسْتَصْعَبَ ہ: کو مشکل پانا یا سمجھنا۔ صِعَاب: مشکلات۔ صعب الاحتمال: ناقابل برداشت، سخت، مارڈالنے والا۔ صعب الارضاء: جس کو راضی کرنا مشکل ہو، نازک طبع، نازک مزاج۔ صعب المراس: سخت، جس پر آسانی سے قابو نہ پایا جاسکے، ضدی، سرکش، ہٹ دھرم، ہٹ کا پکا، منہ زور، نافرمان، خودسر۔ عُمْلة صَعْبَة: عسیر الحصول سکے، زرسخت۔ صُعُوبَة: مشکل۔ صعوبة المراس: سختی، ضد، سرکشی، ہٹ دھرمی، منہ زوری، نافرمانی، خودسری۔ مصَاعِب: مشکلات، سختیاں۔

صعت: صَعْتَر النحلُ: شہد کی مکھی کا پہاڑی پودینہ کھانا۔ الـرجلُ الشیءَ: کوزینت دینا، کی آرائش کرنا۔ الصَعْتَر (ن) پہاڑی پودینہ۔ الصَعْتَرِیّ: چالاک، شریف، بہادر۔

صعد ۱۔ صَعِدَ ـ صُعُوداً و صَعَداً و صُعُداً فی السلّم: سیڑھی پر چڑھنا۔ ـ بہ: کو چڑھانا، ترقی دینا۔ ـ صُعُودًا المکانَ: پر نیچے دیکھتے ہوتے چڑھنا۔ صَعَّدَفیہ النظر: کو اوپر نیچے غور سے دیکھنا۔ فی وعلی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ ـ فی الوادی: وادی میں اترنا۔ أصْعَدَ بکہ (کو) جانا۔ ـ ہٗ: کو چڑھانا۔ ت السفینةُ: کشتی کا بادبان تاننا اور ہوا کا کشتی کو اوپر کی طرف لے جانا۔ ـــــ فی الارض: اونچی زمین کی طرف سفر کرنا۔ فی الوادی: وادی میں اترنا۔ تَصَعَّدَ و تَصَاعَدَ: چڑھنا۔ اِصْطَعَدَ: چڑھنا۔ الصاعد (فا) کہتے ہیں۔ بلغ کذافصاعداً: وہ اس مقام تک پہنچا پھر اس سے بھی اوپر، اس کا نصب حالیت کی وجہ سے ہے۔ الصَعَّاد: بہت چڑھنے والا۔ الصُعُد: بلندی کہتے ہیں: ہبط من صُعُدٍ: وہ بلندی سے نیچے آیا، نیز کہتے ہیں: ھذا النباتُ ینمو صُعُدًا: یہ پودا بلندی میں بڑھتا ہے۔ الصَعْدَة جمع صِعَاد و صَعَدات: صعد کا اسم مرۃ۔ سیدھا ہموار نیزہ۔ الصَعُود جمع صُعُد و أَصْعِدَة و صَعَائِد: چڑھائی، بلندی کی طرف جانے والا راستہ۔ الصَعِید جمع صُعُد و صَعُدات و صُعُدَان: زمین کا بلند حصہ۔ التَصَعُّد (ك): تبخیر۔ المَصْعَد: موصل جس سے برقی رو ملکے کئے ہوئے گیس کی ٹیوب میں یا برقی تجزیہ دان میں داخل ہوتی ہے۔ المِصْعَد جمع مَصَاعِد: برقی سیڑھی۔ المِصْعَاد: درخت خرما پر چڑھنے کی رسی جبلٌ مُصَعِّد: بلند پہاڑ۔

۲۔ أَصْعَدَ فی العَدْوِ: تیز دوڑنا۔ تَصَعَّدَہُ الامرُ: کام کا کسی پر دشوار ہونا۔ ـ النَفَسُ: سانس مشکل سے نکلنا۔ تصَاعَدَہُ الامرُ: کام کا کسی پر دشوار ہونا۔ الصَعَد: مشقت۔ عذابٌ صَعَدٌ: سخت، تکلیف، عذاب۔ الصَعُود جمع صُعُد و أَصْعِدَة و صَعَائِد: دشوار گزار گھاٹی کہتے ہیں: لأُرْهِقَنَّكَ صَعُودًا: میں تمہیں مشقت میں مبتلا کردوں گا۔ الصعداء: مشقت۔ الصُعَداء: غم یا تکان سے لمبا سانس۔ الصَعُوداء: دشوار گزار گھاٹی۔

۳۔ الصَعِید جمع صُعُد و صَعُدات و صُعُدان: مٹی، قبر، راستہ کہتے ہیں۔ صارت الحدیقةُ صعیدًا: باغ ہموار زمین بن گیا، جس میں کوئی درخت نہ رہا۔ المُصَعَّد من الأَشْرِبَة: عمل تبخیر سے گزارا ہوا شربت۔

○ صَعِدَ ـ صَعُودا: اٹھنا، اوپر جانا، چڑھنا، اوپر کی طرف ڈھلوان ہونا۔ ہ: پر چڑھنا، ـــــ ہوائی جہاز کا پرواز کرنا۔ صَعِدَبِہ الی: کو پر چڑھانا، کی تک رہنمائی کرنا۔ صَعَّدَ: چڑھنا، بہاؤ کے الٹے رخ جانا، بالائی مصر کی طرف سفر کرنا۔ ـ ہ: کو اوپر بھیجنا۔ ـ ہ: کو اٹھانا یا چڑھانا۔ ـ ہ: آہ بھرنا، کو بخارات بنانا، کا جوہر اڑانا۔ تصعید کرنا۔ صَعَّدَ الزفراف: گہری آہیں بھرنا۔ اَصْعَدَہ: کو چڑھانا، کو آگے کرنا یا بڑھانا۔ اَصْعَدَ اِلی: بلند خطہ کی طرف جانا، پہاڑ کے رخ کے خلاف جانا، اوپر کی طرف سفر کرنا، سفر کرنا۔ تَصَعَّدَ: بخارات بننا، تبخیر ہونا۔ تَصَاعَدَ: اٹھنا، چڑھنا۔ صُعُد: بلندی، اونچی جگہ، ارتفاع۔ صَعْدہ جمع صَعَدات: چڑھائی، اونچا اٹھنا، ڈھلان۔ صُعُود: اٹھنا، چڑھنا، پرواز (ہوائی جہاز کی) چڑھائی، بلندی، تجارت کی اچانک گرم بازاری۔ ـــــ الی: کی طرف پیش قدمی۔ صعود الرب اور عید الصعود: رفع مسیح کا دن (عیسائیوں کے نزدیک) صَعُود: کھڑی چٹان۔ صَعِید جمع صُعُد: پہاڑی علاقہ، اونچا علاقہ، سطح مرتفع۔ الصعید اور صعید مصر: بالائی مصر۔ فی صعید واحد: مشترکہ بنیاد پر، یکساں بنیاد پر، بلا امتیاز، بلا تمیز۔ علی صعید واحد: ہم مزاج، متفق۔ صعیدی جمع صَعَایِدة: بالائی مصر کا۔ صُعَداء: (گہری) آہ۔ تَنَفَّسَ الصعداء: (گہری) آہ بھرنا، گہری سانس لینا۔ مَصْعَد جمع مَصَاعِد: چڑھنے کی جگہ۔ مِصْعَد: برقی سیڑھی۔ مِصْعَدة: بڑھی سیڑھی۔ صاعِد جمع صَوَاعِد: اوپر اٹھتا ہوا، چڑھتا ہوا، بلند ہوتے (بخارات) فصاعداً: اور اس سے آگے، اور مزید۔ من -- فصاعدا: سے آگے، اوپر کی طرف۔ من الان فصاعدًا: آج کے بعد، اب سے آئندہ۔ متصاعد: بلند ہوتا، چڑھتا ہوا، بلند ہوتے ہوئے (بخارات)۔

صعر ۱۔ صَعِرَ ـ صَعَراً وجهُهُ: منہ کا ٹیڑھا ہونا صفت أَصْعَر م صَعراء جمع صُعر۔ صَعَّر و صَاعَرَ و أصْعَر خَدَّہ: تکبر سے رخساروں کو ٹیڑھا کرنا، کبھی خِلْقَتًا ایسا ہوتا ہے۔ تَصَعَّر و تَصَاعَر: تکبر سے رخسار کو ٹیڑھا کرنا۔ الصَعّار: متکبر، مغرور۔

۲۔ صَعِرَ ـ صَعَراً راسُہُ: سر کا چھوٹا ہونا۔

۳۔ صَعْرَرَ الشیءَ: کو گھمانا۔ تَصَعْرَرَ: گھومنا۔ اِصعَنْرَرَ و اِصْعَرَرَّ: پیچ و تاب کھانا۔ الصُعْرورة: گبریلے کی گولی۔

۴۔ اِصْعَرَّتِ الابلُ: اونٹوں کا تیز چلنا۔ الصُعْرُوْر جمع صَعَارِیر: درخت کا جما ہوا رس، جیسے گوند۔

○ صَعِرَ ـ صَعَراً: (تکبر سے چہرے کا) ترچھا یا ٹیڑھا ہونا۔ صَعَّرَ خدہ: اپنی وضع قطع کو متکبرانہ بنانا۔

صعف ۱۔ صُعِفَ صَعْفًا: کانپنا۔ أَصْعَفَ الزرعُ: غلے سے چھلکا اترنے کے قابل ہونا۔ صفت۔ صَعِیف۔ الصَعْفَة: سردی یا خوف سے پیدا شدہ کپکپی۔

۲۔ الصَعْفَقَ و الصُعْفُوق و الصَعْفَقِیّ جمع صعافیق و صَعَافِقَة (ت) نادار خریدار بے سرمایہ گاہک، اور جب کوئی شخص کچھ خریدے تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے، کمزور، بزدل، نہتا۔ الصَعْفُوق جمع صَعَافیق و صَعَافِقَة: کمینہ۔

صعق ۱۔ صَعَقَ ـ صَاعِقَةً ت السماءُ القومَ: آسمان کا لوگوں پر بجلی گرانا۔ صَعَقَتْهُمُ الصاعِقَةُ: پر بجلی گرنا۔ صَعِقَ ـ صَعَقًا الرعدُ: بادل کا زور سے گرجنا۔ ـــــ صُعَاقًا الثورُ: بیل کا زور سے ڈکارنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اَصْعَقَتہُ السماء: آسمان کا کسی پر بجلی گرانا۔الصَعَق: (مص) کڑک۔الصُعاق: بادل کی گرج و کڑک۔ الصاعِقہ: (مص) جمع صَواعِق: زمین پر گرنے والی بجلی، عذاب کی چیخ و پکار۔

۲۔صَعِقَ -صَعَقَات الرکیَّۃُ: کنویں کا گر جانا۔ وصُعِقَ صَعْقًا و صَعَقًا و صَعْقَۃً و تَصْعَاقا: کسی تیز آواز وغیرہ کو سن کر بیہوش ہو جانا، ہوش و حواس میں نہ رہنا۔(صفت: صَعِق) مرجانا۔اَصْعَقَ ہُ: کو قتل کرنا۔الصَعَق: موت۔الصَاعِقۃ جمع صَواعِق: موت، ہر مہلک تکلیف۔المصعُوق: بیہوش، اچانک مرجانے والا۔

۳۔الصُعْقُر: مچھلی کے انڈے۔

صَعَقَ -صَاعقۃً ہ: کو بجلی کا مار ڈالنا، کو بیہوش کرنا، کے حواس باختہ کرنا، پر غشی طاری کرنا۔ صَعِقَ -َ و صُعِقَ صَعَقَۃً: پر بجلی گرنا، کا ہوش زائل ہونا۔صعق فی مکانہ: راہ چلتے مرجانا، رک جانا، جیسے بجلی گری ہو۔ اَصْعَقَ ہ: کو بجلی کا مار ڈالنا، تباہ کر دینا، کو بیہوش کرنا، کے حواس باختہ کرنا، پر غشی طاری کرنا۔انصعق: پر بجلی گرنا۔صَعَق: (بادل کی) گرج، گھن گرج (بجلی کی) کڑک، گرج۔صَاعِقَۃ: بجلی، کوندے کی لپک۔ مصعوق: جس پر بجلی گری ہو، حواس باختہ، سٹ پٹایا ہوا، گم سم، کچلا ہوا، ہلاک شدہ، توڑا پھوڑا ہوا، نیست و نابود کیا ہوا۔

صعل: ۱۔صَعِلَ -َصَعَلاً و اِصْعَالّ: چھوٹے سر اور، پتلی گردن والا ہونا، صفت۔اَصْعَل م صَعْلاءَ جمع صُعْلٌ۔ الصَعْل: چھوٹے سر والا شتر مرغ، کھجور کا درخت یا آدمی، لمبا، وہ گدھا جس کے بال جھڑ گئے ہوں۔

۲۔صَعْلَكَ صَعْلَكَۃً ہُ: کو محتاج بنانا۔تَصَعْلَكَ: محتاج ہونا۔الصُعْلوك جمع صعاليك و صَعَالِك: غریب، بے مایہ۔صَعَالِيكُ العربِ: عرب کے چور اور غریب لوگ۔

۳۔صَعْلَكَ صَعْلَكَۃً ہُ: کو دبلا کرنا۔الصُعْلُوك جمع صَعَالِيك و صَعَالِك: کمزور ناتواں۔

صَعْلَكَۃ: کوچہ گردی، آوارہ گردی۔صُعْلُوك جمع صَعَالِيك: قلاش، مفلس، بے مایہ، کنگال محتاج، غریب بیچارہ، بھکاری، آوارہ گرد، بیکار مزدوری ڈھونڈنے والا، بے خانماں، مارا مارا پھرنے والا، بے گھر، بے در، کوچہ گرد۔

صعن: اَصْعَنَ الرجُلُ: چھوٹے سر اور ناقص عقل والا ہونا۔اِصْعَنَّ الشیءُ: باریک اور نازک ہونا۔

صعا: صَعَا يَصْعا و يَصْعُو صَعْواً: پتلا اور چھوٹا ہونا۔ الصَعْو: (مص) جمع صَعَوَات واحد صَعْوَۃ: چھوٹی چڑیاں۔جمع صِعَاء و اَصْعَاء: (ح) ممولا، بیا۔ ناقۃ صَعْوَۃ: چھوٹے سر والی اونٹنی۔

صغب: الصُغَب: جوں کے انڈے، لیکھیں۔

صغر: ۱۔صَغِرَ -َصَغَراً و صَغَارَۃً و صِغَراً و صُغْرانًا: چھوٹا ہونا۔صَغْراً القومَ: قوم میں سب سے چھوٹا ہونا۔فُلانًا: سے چھوٹا ہونا۔صَغَرَ -ُصَغْراً القومَ: قوم میں سب سے چھوٹا ہونا۔فُلانًا: سے چھوٹا ہونا۔صَغَرَ -ُصَغْراً القومَ: قوم میں سب سے چھوٹا ہونا۔فلانا: سے چھوٹا ہونا۔آپ کہتے ہیں۔ما صَغَرَنی الابسنۃٍ: وہ مجھ سے صرف ایک سال چھوٹا ہے۔صَغُرَ -ُصَغَراً و صَغَارَۃً و صِغَراً و صُغْرانًا: چھوٹا ہونا۔صَغَّرَہُ: کو چھوٹا بنانا۔اَصْغَرَ القومُ: قوم کا چھوٹے قد والے جننا۔ہُ: کو چھوٹا بنانا۔ ت الارضُ: زمین کا چھوٹے پودوں والی ہونا۔ اِسْتَصْغَرَہُ: کو چھوٹا سمجھنا یا چھوٹا پانا۔فلانٌ: چھوٹا طلب کرنا۔الصِغْرَۃ: سب سے چھوٹی اولاد یا قوم میں سب سے چھوٹا کہتے ہیں۔ھو صِغرۃُ ابویہ او صغرۃ اولاد ابویہ: وہ اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اولاد ہے۔صِغارُ القوم: قوم میں چھوٹے لوگ کہتے ہیں۔أنا من الصِغْرۃ: میں چھوٹے لوگوں میں سے ہوں۔الصُغَار و الصُغْران: چھوٹا۔الصَغَارۃ: (مص) چھوٹا پن کہا جاتا ہے کہ صَغَارَۃ: قدر و منزلت میں چھوٹا پن اور صِغَر: جسامت میں چھوٹا ہونا ہے۔ الصَغِیر جمع صِغَار و صُغَراء: چھوٹا۔الأَصْغَر: اِسم تفضیل جمع اَصَاغِر و أَصَاغِرۃ و اَصْغَرُون م صُغْرىٰ جمع صُغَر: سب سے چھوٹا، یا کسی سے چھوٹا۔ الأَصْغَرانِ: دل و زبان، اسی سے مثل ہے۔المرءُ باَصْغَرَیہ۔ آدمی کی قدر و منزلت دو چھوٹی چیزوں دل اور زبان سے ہے۔

۲۔صَغُرَ -ُصِغَراً و صُغْراً و صَغَاراً و صَغَارَۃً و صُغْرانًا: ذلیل و خوار ہونا۔صَغَّرَہُ: کو ذلیل کرنا کہتے ہیں۔صَغَّرَہُ فی اعین الناس: اس نے اسکی لوگوں کی نظر میں تحقیر کی۔اَصْغَرَہُ: کو ذلیل کرنا۔تَصَاغَرَ الرجُلُ: حقیر ہونا، بے قدر ہونا کہتے ہیں۔تَصَاغَرَت الیہ نفسُہُ: اس نے اس کے سامنے آپ کو لائق مذمت ثابت کیا۔الصَغَار و الصُغْر: ذلت، حقارت، کمزوری، کمی، ظلم بے انصافی۔الصَاغِر جمع صَغَرۃ و صَاغِرون (فا): ذلیل، حقیر، ذلت اور ظلم پر راضی۔

۳۔صَغُرَ [illegible]

صُغْرانات الشمسُ: سورج کا غروب کی طرف مائل ہونا۔

صَغُرَ -ُصِغَراً و صَغَارَۃ و صَغِرَ -َصَغَراً: چھوٹا ہونا، بہت کم یا ناکافی ہونا، کم ہونا، گھٹنا۔گھٹ جانا، کم ہو جانا، سمٹنا، نوجوان ہونا، کمسن ہونا، منکسر المزاج ہونا، عاجز ہونا، فرمانبردار ہونا، اطاعت شعار ہونا، اطاعت پذیر ہونا، انقیاد پذیر ہونا، منقاد ہونا، کمینہ، ذلیل، یا فرد مایہ ہونا، غریب ہونا مسکین ہونا۔صَغَرَ -ُ صَغْراً ہ ب: سے عمر میں بقدر...... چھوٹا ہونا۔صَغَّرَ ہ: کو چھوٹا بنانا، کم کرنا، تھوڑا کرنا۔-- ہ / ھ۔ کو گھٹا کر بتانا، پر ہنسنا، کی ہنسی اڑانا، کا مذاق اڑانا، کو بے قدر کرنا، کو حقیر یا ذلیل کرنا۔تَصَاغَرَ: اپنے آپ کو قابل مذمت ثابت کرنا، کمینہ ذلیل یا فرومایہ ہونا یا عاجزی کرنا، لجاجت کرنا، اپنی بے عزتی کرنا، اپنی خودداری کا جنازہ نکالنا۔اِستَصْغَرَ ہ / ھ: کو چھوٹا، معمولی یا بے حقیقت سمجھنا، کو حقیر جاننا، کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہ کر سکنا، کے متعلق بری رائے رکھنا۔استصغر نفسہ۔ اپنے آپ کو کم مرتبہ سمجھنا۔صِغَر: چھوٹا ہونا، چھوٹا پن کمی، ناکافی ہونا، معمولی ہونا، کمی قلت، کم سنی، کم عمری۔ صغر السن: کم سنی، نوعمری۔صغیر السن: کم سن۔ صغیر النفس: کمینہ خصلت، گھٹیا، پست، رذیل، ذلیل، فرومایہ، خوش آمدی، کاسہ لیس، خوشامدی ٹٹو، چاپلوس۔صِغَارُ الموظفین: چھوٹے اہلکار کُل صغیرۃٍ و کبیرۃٍ: ہر تفصیل۔صغیرۃ جمع صَغَائر: معمولی قابل معافی گناہ، چھوٹی غلطی۔صُغَائِر: معمولی یا فضول باتیں، غیر اہم امور۔اَصْغَرَ الشَرَّین: دو برائیوں میں سے کم درجہ کی برائی۔آسیا الصُغریٰ: ایشیائے کوچک۔الدول الصغری: چھوٹے ممالک۔ سوریا الصغری: فلسطین۔النِہایۃُ الصغری: کم سے کم۔فی صورۃٍ مُصغرۃ: چھوٹے پیمانے پر۔فلمٌ مُصَغَّر: مائکروفلم۔اِصغار: حقارت، تحقیر توہین، تذلیل۔بے التفاتی، بے پروائی۔تصاغر: غلامی، کمینگی، خوشامد، کاسہ لیسی، عاجزی، لجاجت، کسی کے سامنے جھکنا۔صاغِر: کمینہ، منکسر المزاج، عاجز، حقیر، ذلیل، قابل مذمت، لائق مذمت، شرمندہ، نیچا شرمسار، مسکین، عاجزانہ طبیعت والا، بددل، افسردہ، غمگین، فرمانبردار، غلامانہ۔-لِ: کا تابع، محکوم۔

صغا: ۱۔صَغَا -ُصَغْوا الیہ: کی طرف کان لگانا۔ صَغِیَ یَصْغَی صَغًی و صُغِیًّا الیہ: کی طرف جھک کر سننا، سننے کے لئے کی طرف جھکنا۔اَصْغَی اصغاءً الی حدیثہ: کی بات کو غور سے سننا۔الیہ: سننے کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لئے کی طرف جھکنا۔ صاغیۃ الرجل آدمی کے ماتحت نوکر چاکر، آدمی کی قوم، آپ کہتے ہیں: اکرموا فلانا فی صاغیتِہِ: یعنی اسکی قوم میں اسکی عزت کرو۔

۲۔ صَغَا ۔ صَغْوًا ت النجومُ او الشمسُ: غروب کے لئے جھکنا، غروب ہونے لگنا، غروب ہونے والے سورج کو صغوا اور غروب ہونے والے ستاروں کو صَوَاغٍ کہتے ہیں۔ صَغِیَ یَصْغَی صَغًی و صُغِیًّاتِ النجومُ او الشمسُ: ستاروں یا سورج کا غروب ہونے لگنا۔ اَصْغَی اصغاءً الاناءَ: برتن جھکانا۔ الصِغوجمع اَصْغَاء: ڈول کے دوہرے کنارے۔

۳۔ أَصْغَی اصغاءً الشیءَ: کو کم کرنا، گھٹانا آپ کہتے ہیں: أصغی حقَّهُ: اس نے اس کا حق گھٹا دیا۔

۴۔ الصِغوجمع اَصْغَاء: کنویں کا کنارہ۔ صِغو الکفِّ او المغرفۃِ: ہتھیلی یا چمچہ کا گڑھا۔

○ (صغو و صغی) صَغَا ۔ صَغْوا و صُغُوًّا الی: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ صَغِیَ ۔ صَغًا و صُغِیًّا الی: کی طرف (پر) جھکنا، مائل ہونا۔ ل: کو بغور سننا، پر کان لگانا۔ اَصْغَی لِ / الی: کو بغور سننا، پر کان لگانا، کی طرف توجہ کرنا، پر کان دھرنا۔ صَغْو و صَغًا: جھکاؤ، میلان، رجحان لگاؤ، تعلق، خیر اندیشی، خیر خواہی، خیر سگالی۔ اِصغاء: توجہ، متوجہ ہونا۔ صاغٍ: مائل، راضی، رضامند، آمادہ، تیار، متوجہ، غور سے سننے والا، سننے والا۔ مُصغٍ: متوجہ، غور سے سننے والا، سننے والا۔

صف: ۱۔ صَفَّ ۔ صَفًّا الشیءَ: کی صف بنانا، کو صف کی شکل میں منظم کرنا آپ کہتے ہیں: صف۔ الصبیانُ الکعابَ: بچوں نے ایڑیوں کو ایک صف میں کیا۔ القومَ: لوگوں کو جنگ وغیرہ میں صفوں میں کھڑا کرنا۔ ۔ القومُ: لوگوں کا صف بندی کرنا۔ تصُفُّ النساءُ خلفَ الرِجالِ و لاتُصَفُّ معَهُمْ: عورتیں مردوں کے پیچھے صفیں قائم کرتی ہیں، مردوں کے ساتھ نہیں۔ ۔ت الابل قَوَائِمَها: اونٹوں کا اپنے پاؤں کو ایک قطار میں رکھنا۔ ۔ اللحمَ: گوشت کو لمبائی میں چیرنا۔ ۔ الطائرُ جِناحَیْهِ: پرندے کا اپنے بازوؤں کو پھیلانا اور حرکت نہ دینا۔ صَفَّفَ الشیءَ: چیز کی صف بندی کرنا۔ القومَ: قوم کو جنگ وغیرہ میں صف بندی سے کھڑا کرنا۔ ت الابل قَوائِمَها: اونٹوں کا اپنے پاؤں کو ایک قطار میں رکھنا۔ اللحمَ: گوشت کو لمبائی میں چیرنا۔ الطائرُ جناحَیْهِ: پرندہ کا اپنے بازوؤں کو پھیلانا اور حرکت نہ دینا۔ صَافَّ مُصَافَّۃً القومَ فی القتال: لوگوں کا جنگ میں صفوں میں کھڑا ہونا۔

تَصَافَّ القومُ: صف وار جمع ہونا۔ اِصْطَفَّ القومُ: لوگوں کا صفوں میں کھڑا ہونا۔ الصَفّ جمع صُفُوف: ہر شئے کی سیدھی قطار، کلاس (Class) صف بستہ قوم۔ الصافۃ من الابل جمع صافات و صَوَافّ: ایک قطار میں ٹانگیں رکھے ہوئے اونٹ۔ الصافات: ملائکہ، فرشتے۔ الطیر الصَوَافّ: وہ پرندے جو اپنے بازوؤں کو قطار میں رکھیں اور حرکت نہ دیں۔ ناقۃ صَفُوف: بہت دودھ دینے والی اونٹنی، جو دودھ کی کثرت کی وجہ سے برتنوں کی صف لگا دے یا اپنی اگلی ٹانگوں کو دودھ دوہنے کے وقت ایک صف میں کر لے۔ الصفیف: دھوپ میں سکھانے یا آگ پر بھوننے کے لئے قطار میں رکھی ہوئی چیز۔ المَصَفّ جمع مَصَاف: صف بندی کی جگہ، میدان کارزار عموماً کھڑے ہونے کی جگہ۔ مَصَفُّ الکلام ۔ سیاق الکلام: (عام زبان میں)) جو اس عبارت کے بعد ہو) مقالہ کا نتیجہ۔

۲۔ صَفَّ ۔ صَفًّا و صَفَّفَ السرجَ: کاٹھی یا زین کے لئے گدی بنانا۔ صَافَّ مُصَافَّۃً فلانٌ فلانا: کے چبوترے کے مقابل اپنا چبوترہ ہونا۔ اَصَفَّ السرجَ: زین کے لئے گدی بنانا۔ الصُفَّۃ جمع صُفَف و صُفَات و صِفَات: گرمی کے لئے گھاس پھوس کی چھت کا مکان۔ صُفَّۃُ السرج او الرحل: زین یا کجاوہ کی گدی۔ ۔ المسجد: مسجد کے قریب سایہ دار چبوترہ۔

۳۔ الصُفَّۃ جمع صُفَف و صُفَّات و صِفَاف: ہتھیلی پر رکھے جانے والے دانے، بنگی بیج۔ صُفَّۃ من الدهر: زمانہ کا ایک عرصہ، آپ کہتے ہیں: عِشْنا صُفَّۃً من الدهر: ہم زمانے کا ایک عرصہ رہے۔ الصَفَف: وہ لباس جو زرہ کے نیچے پہنا جاتا ہے۔

۴۔ صَفْصَفَ الرجُل: بیابان میں تنہا چلنا۔ الصَفصف: ہموار زمین، بیابان۔ قاع صَفْصَفٌ: ہموار زمین۔ الصَفْصَفَۃ: بیان بان۔ صَفْصَفَ العُصْفُورُ: چڑیا کا چہچہانا۔ الصُفْصُف: (ح) چڑیا۔

۶۔ صَفْصَفَ الامتعۃَ: سامان کو ترتیب سے رکھنا۔

۷۔ الصَفْصَاف (ن): بید مجنوں، بید۔

○ صَفَّ ۔ صَفًّا ہ: کو صف یا قطار میں رکھنا، کی قطار بندی کرنا، کو سیدھ میں لانا، کی صف بندی کرنا، کو ترتیب دینا، (ٹائپ کے حروف) کو جوڑنا یا جمانا، کی درجہ بندی کرنا۔ ۔ ہ مع: کی کے درمیان صف بندی کرنا۔ ۔ ہ: کو لمبے ٹکڑوں یا چوڑی پٹیوں میں کاٹنا۔ صَفَّف ہ: کو قطار یا صف میں رکھنا، کو سیدھ میں لانا، کو ترتیب دینا۔ ۔ ہ بالوں میں کنگھی کرنا۔ تَصَافَّ: صف بستہ ہونا، قطار یا صف میں کھڑا ہونا، یا جگہ لینا، ایک سیدھ میں ہونا۔ اِصْطَفَّ بمعنی تَصَافَّ۔ اِصْطَفَّ فارمیشن میں آنا یا کھڑا ہونا (فوج کے ایک حصہ کا) اصطف الی جانب الطریق: سڑک پر صف بستہ ہونا۔ صَفّ جمع صُفُوف قطار، صف، کلاس، قسم، گروپ۔ صف الدم: خون کا گروپ (blood group) اٰلۃ صفِّ الحروف: ٹائپ سیٹ کرنے والی مشین۔ ضابط الصف: (نیز صف ضابط جمع) صف ضباط: نان کمشنڈ آفیسر۔ اِنْتَظَمَ صفوفًا: صف بندی کرنا۔ صُفَّۃ: گر۔ صفّاف و صفّاف الحروف: حروف جوڑنے یا جمانے والا۔ مَصَفّ جمع مَصَاف: (فوج کی) پوزیشن، صف، قطار، محاذ جنگ۔ رفعہ الی مصافِ: کو کی صف یا سطح پر لانا۔

صفت: صَفَتَ ۔ صَفْتًا حقَّہُ: اپنا حق چھوڑ دینا (عام زبان میں) تَصَفَّتَ الرجُل: طاقت حاصل کرنا، قوی اور مضبوط ہونا۔ الصِفِتّ و الصِفِتان و الصِفِّتَان: بڑا جسیم، مضبوط سخت اندام۔

صفح: ۱۔ صَفَحَ ۔ صَفْحًا الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔ ۔ ہُ بالسیف: کو تلوار چوڑی طرف سے مارنا، دھار کی طرف سے نہیں۔ الناسَ: لوگوں میں مقابلہ کر کے ان کے حالات کو دیکھنا۔ تَصَفَّحَ المکانَ: کسی جگہ میں سلوں کا فرش لگانا۔ الشیء: کو چوڑا کرنا اور لمبا کرنا۔ بیدیہ: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔ صَافَحَ صِفاحًا و مُصَافحۃً ہُ: سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا۔ تَصَافَحَ القومُ: ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، کہتے ہیں۔ تَصَافحت الاجفان: پلک جھپکنا۔ الصَفْح (مص) جمع صِفَاح: جانب۔ من الانسان: انسان کا پہلو۔ السیفِ: تلوار کا چوڑا پہلو۔ من الوجہ: رخسار۔ الصُفُح: تلوار اور چہرے کی چوڑائی۔ صُفحا الکَفَّیْن: ہتھیلیوں کے سامنے کے حصے۔ الصَفحۃ من الشیء جمع صَفَحات: پہلو، سامنے کا حصہ۔ من الکتاب: صفحہ۔ صَفْحَۃُ الرجُل: سینہ کی چوڑائی کہتے ہیں۔ ابدی لہ صَفْحتہٗ: اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ الصَفْحان و الصَفْحَتان: دونوں رخسار۔ الصِفَاح و الصَفَح: رخسار یا پیشانی کی بہت زیادہ چوڑائی کہتے ہیں۔ لَقِیَہ صِفَاحًا: وہ اس سے اچانک ملا۔ الصُفَّاح جمع صُفَّحات و صَفَافِیح: چوڑے پتلے پتھر، بڑے کوہان والے اونٹ۔ الصَفِیح: ہر چوڑی چیز کا ظاہر، آسمان۔ الصَفِیْحَۃ جمع صفیح

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

و صفائح چوڑی تلوار، چوڑا پتھر، ہر چوڑی اور لمبی چیز کا ظاہر (ط) گندھے ہوئے آٹے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن پر گوشت اور مسالے رکھ کر پکائے جاتے ہیں۔ ـــ او النصل پتے کا چوڑا پھیلا ہوا حصہ۔ صفحۃُ الوجہ: چہرے کی کھال۔ الصفائح: دروازے کے تختے۔ سر کی ہڈیاں۔ المُصفح چوڑا۔ من الوجوہ: ملائم خوبصورت چہرہ۔ ـــ من الـرؤوس: کنپٹیوں کے پاس سے تنگ پیشانی اور گدی کے درمیان لمبا سر۔ من الناس وہ دورخا شخص جو کافروں سے بھی میل رکھے اور مومنوں سے بھی۔ من الانوف: درمیانی بلندی والی ناک۔ ستواں ناک۔ من القلوب وہ دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہوں۔ المُصَفَّح چوڑا، جس پر چوڑی سلیں لگی ہوں۔ انف مُصَفَّح ستواں ناک۔ المُصَفَّحَة والمُصَفِّحَة جمع مُصَفِّحات و مُصَفَّحات تلوار المُصَفَّحات واحد مُصَفَّحة (ا ع): بکتر بند گاڑیاں

۲۔ صَفَحَ ـ صَفْحًا عنہ: سے منہ پھیرنا، روگردانی کرنا، اعراض کرنا، کو ترک کرنا، کے گناہ سے درگزر کرنا، کو معاف کرنا۔ السائل عن حاجتہ سائل کی حاجت پوری نہ کرنا، آپ کہتے ہیں: أتيته فی حاجة فصفحنی: میں ایک کام کے سلسلے میں اس کے پاس آیا مگر اس نے میری ضرورت پوری نہیں کی۔ ـــ صُفُوحًا ت الناقة وغیرھا اونٹنی وغیرہ کا دودھ خشک ہونا۔ صفت صافح۔ صَافَحَ المریضُ عند العامة: مریض سے خطرہ ٹل گیا۔ أَصْفَحَ السائلَ: سائل کو ناکام واپس پھیرنا۔ الشیء: کو الٹنا، پلٹنا۔ اِسْتَصْفَحَ هُ الذنبَ: سے گناہ کی معافی چاہنا۔ الصفح (مص) کہتے ہیں۔ ضرب عنہ صفحًا: اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ الصَّفَّاح: گناہ معاف کرنے والا، کریم۔ المُصْفَح: الٹا ہوا، جھکا ہوا۔

۳۔ صَفَحَ ـ صَفْحًا الناسَ: لوگوں میں مقابلہ کر کے ان کے حالات کو دیکھنا۔ ـــ ورقَ المُصْحَف: مصحف کے ایک ایک ورق کو پیش کرنا۔ فی الامر: کسی امر میں غور کرنا۔ تَصَفَّحَ الشیءَ: کو غور سے دیکھنا اور سوچنا۔ القومَ: لوگوں کے حالات پر غور کرنا، لوگوں کے معاملات کا پتہ لگانے کے لئے ان کے چہروں کو غور سے دیکھنا۔

○ صَفَحَ ـ صَفْحًا ہ: کو چوڑا کرنا، فراخ کرنا، وسیع کرنا، چپٹا کرنا، ہموار کرنا، کو کوٹ یا پیٹ کر ورق بنانا، پرتہ چڑھانا، کو ملمع کرنا۔ صَفَّحَ: بمعنی بالا، کو بیلنا، پتر چڑھانا، کو بکتر بند کرنا۔ ـــ ہ ب کو سے لیس کرنا، کو سے آراستہ کرنا، کو سے ڈھکنا۔ صافَحَ ہ: سے ہاتھ ملانا، سے مصافحہ کرنا، کا خیر مقدم کرنا۔ ـــ ہ کو آرام سے چھونا، کا مسح کرنا، کو چھوتے ہوئے نکل جانا، پر پھسلنا، (ہوا، سانس کا) کو چھوڑ جانا۔ صافَحَ سَمْعَهُ: کے کان تک پہنچنا۔ تَصَفَّحَ ہ (کتاب وغیرہ کا) ورق پلٹنا، کا جائزہ لینا کی جانچ پڑتال کرنا، کو بغور دیکھنا، کا مطالعہ کرنا، کو بغور پڑھنا۔ تَصَافَحَ ہاتھ ملانا۔ استصفح ہُ: سے کے لئے معافی چاہنا، سے کے لئے معذرت کرنا، عذر خواہی کرنا۔ صفح: معافی، جمع صِفَاح: جانب، کنارہ سطح۔ ضَرَبَ (أَضْرَبَ) عنہ صَفْحًا سے کترانا، اعراض کرنا، منہ پھیرنا، کو چھوڑنا، کو نظر انداز کرنا، کو مسترد کرنا، کی سبکی کرنا، کی پروا نہ کرنا، پر التفات نہ کرنا، کا لحاظ نہ کرنا، سے باز رہنا۔ صَفْحَة جمع صَفَحات: باہر، بیرونی سطح، آخری حد، ظاہری صورت، ظاہری حالت، سپاٹ سطح، سطح، صفحہ، ورق، کاغذ کا تختہ، چادر، تختہ، ذور۔ صَفِيح: چوڑی طرف یا سطح، لوہے کی چادر، ٹین کی پلیٹ، ٹین کی پلیٹیں یا چادریں۔ صَفِيحة جمع صَفائح: (وحدت کی) پلیٹ یا چادر، لکڑی کا تختہ، سل، پتھر کی سل، ٹین کی پلیٹ یا چادر، بالٹی۔ صفاح المصراع: دروازے کا تختہ۔ صفائح المِقْوَل: فونوگراف ریکارڈر، گراموفون ڈسکس (discs)۔ صَفُوح: معاف کرنے والا، معاف کرنے کے لئے تیار و آمادہ۔ صُفّاح جمع صُفّاحات و صفافِيح: پلیٹ، چادر، پتہ، ورق، پتھر کی سل، پتھر کی سل۔ تَصْفِيح: پتر چڑھانا، ملمع کاری۔ مُصَفَّح: چادروں یا باریک پرتوں یا تہوں میں بنایا ہوا، ملمع کیا ہوا، پتر چڑھایا ہوا، بکتر بند، لوہے سے منڈھا ہوا، دھات سے منڈھا ہوا۔ خشبٌ مُصَفَّح: پلائی وڈ۔ سيارةٌ مُصَفَّحة: بکتر بند کار۔ مُصَفَّحة جمع مُصَفَّحات: بکتر بند کار، دیکھ بھال کی بکتر بند کار۔

صفد: صَفَدَ ـ صَفْدًا و صُفُودًا و صَفَّدَہُ: کو باندھنا، قید کرنا، ہتھکڑی لگانا۔ أَصْفَدَہُ: کو قید کرنا۔ ـــ ہ مالاً: کو مال دینا۔ الصَّفَد جمع أصفاد: عطا، بخشش، قید کہتے ہیں: الصَّفَدُ صَفَدٌ: بخشش ایک قید (یا ہتھکڑی) ہے۔ الصِّفاد: ہتھکڑی، بندھن، بندش، تصفید کا اسم ہے جس کا معنی باندھنا ہے۔

○ صَفَدَ ـ صَفْدًا و صَفَّدَ و أَصْفَدَہُ: کو باندھنا، کو بیڑیاں ڈالنا، کو ہتھکڑی لگانا۔ صَفَد جمع أصفاد: بندھن، پابندی، بیڑی۔ صِفاد: بمعنی بالا۔ صفاد [illegible]

صفر: ۱۔ صَفَرَ ـ صَفِيرًا: ہونٹوں سے سیٹی بجانا، عوام اسے صَوْفَرَ کہتے ہیں۔ ـــ بالفرس عند ورودہ: گھوڑے کو پانی پینے کے لئے بلانا۔ صَفَّرَ للدابَّة: جانور کے لئے ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ ـــ بالدابَّة: جانور کو پانی پینے کے لئے بلانا۔ ـــ الصُّفَار: سیٹی۔ الصَّفَّارة: سیٹی عام لوگ اسے صُوفَيْرَة کہتے ہیں۔ صَفَّارةُ الخطر: (نیز صَفَّارةُ الإنذار) خطرہ کا الارم۔ الصَّفِير: (مص) ہر لمبی مگر حروف سے خالی آواز۔ حروفُ الصفير: ز، س، ص۔ الصَّافِر: ہر ایک بولنے والا پرندہ (ح): رات بھر آواز کرنے والا، ایک قسم کا پرندہ تا کہ سو جائے تو پکڑا نہ جائے، اس سے مثل ہے: هُوَ أَجْبَنُ مِنْ صافِرٍ: وہ رات کو نہ سونے والے پرندے سے بھی زیادہ بزدل ہے۔

۲۔ صُفِرَ ـ صفرًا: کے پیٹ میں صُفار جمع ہونا۔ صفت مَصْفُور۔ صَفَّرَ الشیءَ: کو زرد کرنا۔ ـــ الثوبَ: کو زرد رنگ دینا۔ اصْفَرَّ و اصفارَّ: زرد رنگ ہونا۔ الصُّفْر: دینار، سونا، پیتل۔ الصُّفْرة: سنہری یا زرد رنگ۔ الصَّفَر: پیلیا، یرقان کی بیماری۔ الصُّفار: پیٹ میں جمع ہونے والا پیلے رنگ کا پانی، زردی جو رنگ اور جلد پر آ جاتی ہے۔ الصِّفار (عند العامة): انڈے کی زردی۔ الصُّفارة: مرجھایا ہوا پودا۔ الصَّفّار: ٹھٹھیرا۔ الصُّفارِيَّة: (ح) ایک زرد پروں کا پرندہ۔ الأَصْفَر م صَفْراء جمع صُفْر: زرد رنگ کا۔ الأَصْفَرانِ: زعفران اور سونا۔ الصَّفْراء الاصفر کا مونث۔ سونا۔ الصُّفَيْرَاء (ن): ایک قسم کا درخت۔ ـــ البابانیة (ن): ایک قسم کا درخت۔

۳۔ صَفِرَ ـ صَفَرًا و صُفُورًا و صُفُورَةً الاناءُ: برتن کا خالی ہونا کہتے ہیں: صَفِر و طابُه او اناؤه یعنی وہ ہلاک ہوگیا۔ دخلنا الدارَ فوجدناها تصفر: ہم گھر میں داخل ہوئے تو اسے خالی پایا۔ صَفَّرَ البیتَ: گھر کو خالی کرنا۔ أَصْفَرَ محتاج و کنگال ہونا۔ الاناءَ: برتن کا خالی ہونا۔ البیتَ: مکان خالی کرنا۔ الصَّفْر والصِّفْر: خالی کہتے ہیں: بيتٌ صِفْرٌ من المتاع: مکان میں کوئی سامان نہیں۔ هو صِفْرُ الید: وہ خالی ہاتھ ہے۔ الصِّفْر: خالی (ع ح)۔ صِفر: (نقطہ جو اس بات کی علامت ہے کہ عدد خالی ہے) عوام اس کا تلفظ سین سے کرتے ہیں یعنی سفر کہتے ہیں۔ الصَّفَر: بھوک کہتے ہیں۔ عَضَّ علی شُرْسُوفه الصَّفَرُ: یعنی وہ بھوکا ہوگیا۔ صَفَر جمع أصفار: قمری سال کا دوسرا مہینہ۔ غیر منصرف ہے کہتے ہیں: لا يلتاط هذا بصفری: اسکو میری عقل قبول نہیں کرتی۔ الصَّفَرانِ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عربی سن کے دو مہینے جن میں سے ایک کا نام اسلام میں محرم پڑ گیا جبکہ دوسرا مہینہ اپنے نام پر باقی رہا۔ الصِفر جمع أَصْفار : خالی کہتے ہیں۔ اِناءٌ أَصْفارٌ: خالی برتن۔ الصَفْرَة: اسم مرة، بھوک، معدے کا خالی ہونا۔ الصُفار (ح): پیٹ کا کیڑا۔ الصِفْرِيت جمع صَفَارِيت: غریب، مفلس۔ الصَافِر (فا): چور، کہتے ہیں: مابالدار صافِر : گھر میں کوئی نہیں ہے۔ الصَفراء : (ح) وہ ٹڈی جو انڈے دے چکی ہو، چار اخلاط میں سے ایک خلط۔ المُصْفِر (فا) محتاج، حاجتمند۔ المَصْفُور و المُصَفَّر : بھوکا۔

۴۔ الصَفَر : عقل، مغز۔ الصُفْرَة: سیاہی، سیاہ رنگ۔ الصُفَار و الصِفَار : جانور کے دانتوں میں گھاس وغیرہ کا بقیہ۔ الصَفَرِيّ و الصَفَرِيَّة : موسم خریف کی بارش، موسم خریف کا پودا۔ الصافِر : ہر وہ پرندہ جو شکار نہ کرتا ہو۔

۵۔ الصِفْرِد : (ح) بزدلی میں مشہور ایک پرندہ۔

ض صَفَرَ ـِ صَفِيراً : پرندے یا انسان کا سیٹی بجانا (سانپ کا) سوں سوں کرنا (جھینگر کا) چوں چوں، چیں چیں کرنا (سائرن کا) چیخنا۔ صَفِير : سیٹی، سیٹی بجانا (بانسری وغیرہ) کا سُر۔ صَفّارَة جمع صَفّارات : سیٹی، وسل، سائرن۔ صفّارة الامان : خطرہ ٹلنے کا سائرن۔ صفّارة الانذار : خطرے سے آگاہ کرنے کا سائرن۔ صَفَّر ہ : کو پیلا رنگ دینا، پیلا کرنا، زرد بنانا۔ اصْفَرَّ : پیلا پڑنا، پیلا ہونا، زرد ہونا، زرد ہو جانا۔ اصْفَرّ وجهُهُ : وہ زرد پڑ گیا، وہ سفید ہو گیا۔ صُفر : پیتل، سکے نوٹ روپیہ، روپیہ پیسہ، دولت۔ صَفَر : یرقان۔ صُفْرَة: زرد رنگ، زردی، پیلا پن، زردی (چہرہ کی) چہرے کی بے رونقی۔ صَفَار : پیلا رنگ، کوئی پیلی چیز، چہرے کی زردی، بے رونقی، پیلا پن۔ صَفّار جمع صَفّارة: ٹھٹیرا۔ أَصْفَر م صَفراء جمع صُفر : پیلا، زرد، بیمار سا، بے رونق، ماند، مدھم پھیکا۔ ضحكة صَفراء: زبردستی یا پریشانی کی ہنسی۔ نحاس أَصفر : پیتل صفراء: صفراء، پت (بیماری) صَفِير: سنہری کوا، زریں زاغ (oriole) صَفارِية: بمعنی بالا۔ صَفْراوی: صفراوی (صفراء بیماری کا یا سے متعلق) غصیلا، تندمزاج، تیز مزاج۔ الحمي الصفراويه: زرد بخار۔ ضحكة صفراوية: تلخ، یا تمسخر آمیز ہنسی۔ اِصفرار: پیلا رنگ، پیلا پن، چہرے کی زردی، بے رونقی۔ مُصَفَّر : زرد رنگ کیا ہوا، پیلا، زرد بے رونق، ماند، مدھم پھیکا۔ صَفِرَ - صَفَراً و صُفوراً من : سے خالی ہونا۔ صَفِرَت یدُهُ من الشيء : کو کھو دینا۔ صَفَّر ہ : کو خالی کرنا۔ أَصْفَر بمعنی صَفَّر۔ صَفْر، صِفر، صُفْر، صَفِر و صُفُر جمع أَصفار من : سے خالی، محروم، سے آزاد۔ صِفر اليدين : خالی ہاتھ۔ صِفر : زیرو، ہیچ، کچھ نہیں۔ مُصْفِر : خالی ہاتھ۔ مُصفِر اليد: ننگے ہاتھوں کے ساتھ۔ مُصفِر اليدمن كل شیء : مکمل طور پر قلاش۔

صفع: صَفَعَ - صَفْعًا هُ: کو تھپڑ مارنا، کو گدی پر تھپڑ مارنا۔ صَافَعَ هُ و تَصَافَعَ: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ الصَفعانُ و المَصْفَعَانی : جس کو بہت تھپڑ پڑتے ہیں۔

ض صَفَعَ - صَفعًا هُ: کو طمانچہ لگانا، تھپڑ مارنا، چانٹا مارنا، مکا رسید کرنا، گھونسا مارنا، تھپڑ مارنا، چپت رسید کرنا، کے منہ پر تھپڑ مارنا، کے کانوں پر تھپڑ لگانا ــــ ہ: (کسی قاعدہ قانون کی) خلاف ورزی کرنا۔ تصافع: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا (وغیرہ) صفعة: تھپڑ، طمانچہ، چانٹا، گھونسا، چپت، تھپڑا، ضرب۔ صَفّاع جمع صَفّاعون: ایک قسم کا بھانڈ۔

صفق: ا۔ صَفَقَ - صَفْقًا هُ: کو تھپکی لگانا ــــ الطائرُ بجناحيه: پرندہ کا بازو پھڑ پھڑانا۔ العودَ: بربط بجانا، بربط کے تار چھیڑنا۔ له بالبيع و صَفَقَ على يده و صَفَقَ يده بالبيعة: سودا کرنے کے لئے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ــــ هُ بالسيف: کو تلوار سے مارنا۔ ت الريحُ الاشجارَ: ہوا کا درختوں کو ہلانا۔ صَفَّق الطائرُ بجناحيه: پرندے کا بازو پھڑ پھڑانا ــــ الرجُلُ يديه: تالی بجانا ــــ بيديه: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔ صَافَقَ الرجلان عندالبيع: بیع کے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ اصفق القومُ: لوگوں کا مضطرب ہونا، پریشان ہونا۔ تصافق القومُ: آپس میں خرید و فروخت کرنا۔ اصْطَفَق العودُ: بربط کے تاروں کا ہلنا۔ البحرُ: سمندر میں تلاطم آنا۔ القومُ: لوگوں کا پریشان و مضطرب ہونا ــــ ت الاشجارُ: ہوا سے درختوں کا ہلنا۔ الصَفْقة: بیع پر ہاتھ پر ہاتھ مارنا، سودہ طے کرنا یا ہونا کہتے ہیں: صفقة رابحةٌ و صفقةٌ خاسره : نفع کا سودہ، گھاٹے کا سودہ۔ ربحت صفقتك: تمہارا سودا نفع والا ہوا۔ الصافقة: مصیبت۔ الصَفّاق: تجارتی سلسلہ میں بہت سفر کرنے والا، بہت خرید و فروخت کرنے والا۔ صافق کا اسم مبالغہ۔

۲۔ صَفَقَ ـِ صُفُوقًا الرجلُ : جانا۔ ــــ الرجُلَ عن مراده: کو اس کے ارادہ سے پھیر دینا ــــ عينَهُ: آنکھ بند کرنا ــــ البابَ: دروازہ، بند کرنا، کھولنا (ضد) ــــ الشرابَ: شراب کو نتھارنے کے لئے ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلنا۔ صفّق الرجُلُ: جانا ــــ الشرابَ: شراب کو نتھارنے کے لئے ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلنا ــــ حولَ الشيءِ: کے چاروں طرف گھومنا، کا طواف کرنا۔ صَافَقَ الرجُلُ بين جنبيه : دونوں پہلوؤں کے درمیان الٹنا پلٹنا۔ أَصْفَقَ هُ: کو پھیرنا، رد کرنا۔ البابَ و القدحَ و الشرابَ : دروازہ بند کرنا، کھولنا، پیالہ بھرنا، شراب، نتھارنے کے لئے ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلنا۔ تصفّقَ الرجلُ: تردد کرنا۔ اصطفق ت النساء على الميت: عورتوں کا میت پر نوحہ کرنا۔ انصفق: جانا، واپس ہونا، پھر جانا۔ الصَفْق: (مص) جمع صُفُوق: دیوار کا پٹ، کونہ جانب۔ صفقُ الجبل : پہاڑ کی سطح۔ صفقا العنق: گردن کی دونوں طرفیں ــــ الفرسِ: گھوڑے کے دونوں رخسارے۔ الصَفَق: کونہ، کنارہ۔ الصِفْق: دیوار کا پٹ۔ الصفائق: آنے جانے والے قافلے۔ المصافِق (فا) من الابل: کروٹیں بدل بدل کر سونے والا اونٹ۔

۳۔ صَفَقَ ـِ صَفْقاً القدحَ : پیالہ بھرنا کہتے ہیں: صفقت علينا صافِقةٌ: ہمارے ہاں ایک جماعت مہمان ہوئی۔ أَصْفَقَ الحوضَ: حوض میں پانی اکٹھا کرنا۔ للقوم: کے پاس اس قدر کھانا لانا کہ وہ سیر ہو جائیں۔ کہتے ہیں۔ اصفقوا على قول واحِدٍ: وہ ایک بات پر متفق رائے ہو گئے۔ انْصَفَقَ القومُ عليه: قوم کا کسی طرف متوجہ ہونا۔ الصافقة: اترنے والی جماعت۔

۴۔ صَفُقَ - صَفَاقَةً الثوبُ : کپڑے کی بنائی کا گف ہونا۔ صافق بين ثوبين: ایک کپڑے کو دوسرے پر پہننا۔ أَصْفَقَ الثوبَ: کپڑے کو گف بنانا۔ الصِفَاق جمع صُفُق: باریک جھلی جو اوپری چمڑے کے نیچے ہوتی ہے، پیٹ پر منڈھی ہوئی جھلی، لکڑی کی ڈھال پر منڈھا ہوا، چمڑہ۔ ثوبٌ صفيقٌ: گف کپڑا۔

۵۔ صَفُقَ - صَفَاقَةً الرجُلُ: آدمی کا بے شرم ہونا۔ الصفيق : بے شرم کہتے ہیں: وجه صفيق: بے حیا چہرہ۔

۶۔ أُصْفِقَ لي: میرے لئے مقدر ہوا، مجھے دیا گیا۔ تَصَفَّقَ للامر: کے درپے ہونا۔ الصَفَائِق و الصَوَافِق: حوادث

۷۔ الصَفَق: دماغ کا پچھلا حصہ۔ الصَفُوق جمع صُفُق: پہاڑ جس پر چڑھا نہ جا سکے، بلند چکنی چٹان، نرم کمان۔ المَصْفَق: راستہ۔

ض صَفَقَ ـِ صَفْقاه / ہ: کو تھپڑ لگانا، طمانچہ مارنا، چپت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رسید کرنا۔ ہ کو متحرک کرنا۔۔: تالی بجانا، پھڑ پھڑانا۔ ہ: دروازہ بند کرنا، دروازہ زور سے بند کرنا۔ صَفُقَ ـُ صَفَاقَةً: موٹا ہونا، چوڑا ہونا، گھنا ہونا، گنجان ہونا، بھاری ہونا، (کپڑے کا) گاڑھا یا گف ہونا، صَفَّقَ: پھڑ پھڑانا، تالی بجانا، دونوں ہاتھ سے تالی بجانا (بیدیہ) ۔ لِ: کو بآواز تحسین وآفرین کہنا، واہ واہ کہنا، کیلئے تالیاں بجانا۔ بجناحیہ: بازو پھڑ پھڑانا۔ صَفقة جمع صَفَقات: سودا طے کرنے پر ہاتھ پر ہاتھ مارنا، سودا، معاملہ، کاروبار۔ صفقةً واحدةً: یکا یک، اچانک، بھی ایک ساتھ، تمام کا تمام، سارا، یکسر، تمام، بالکل، پوری طرح۔ أعطى صفقةً و عقد صفقةً: سودا، معاملہ طے کرنا، کاروبار کو جامہ عمل پہنانا، عمل میں لانا۔ عَادَ (او رَجَعَ) بـصـفـقة المغبون: داؤ ہارنا، خالی ہاتھ واپس آنا۔ كانت له الصفقة الخاسرة. داؤ ہارنا، خالی ہاتھ واپس آنا، سودا ہارنا۔ صِفاق جمع صُفُق: نچلی کھال۔ صَفِيق: موٹا، بھاری، گاڑھا (کپڑا) صفيق الوجه: ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، گستاخ۔ صَفَاقة: گستاخی، بے شرمی، بے حیائی۔ تـصـفيق: تالیاں، با آواز تحسین وآفرین۔ تصفيق الاستحسان: تالیاں، واہ، واہ، بہ آواز تحسین وآفرین۔

صفن: ۱۔ صَفَنَ ـِ صُفُونًا الفرسُ: گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا اور چوتھی ٹانگ کا صرف سرا ٹکانا۔ — الـرجُلُ: دونوں قدموں کو ایک قطار میں کرنا۔ بـه الارضَ: کو زمین پر گرانا۔ صَافَنَ القومَ: لوگوں کے مقابل کھڑا ہونا۔ الصَافِن من الخيل جمع صَافِنَات وصَوافِن و صُفُون: تین ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا۔

۲۔ صَفَنَ ـِ صَفْنًا الطائرُ الحشيشَ او الورقَ: پرندہ کا اپنے بچوں کے لئے گھاس کے تنکوں یا پتوں کو تہ بتہ جمانا۔ الرجُلَ: کی خصیہ کی تھیلی پھاڑنا۔ الصَفَن جمع صُفْن و صُفُن و الصَفَن و أَصْفان و صُفْنان: خصیہ کی تھیلی۔ الصَفَن ج أَصْفان و صُفْنان: خصیہ کی تھیلی۔ الصَفْنة: اسم مرۃ۔ الصَفَنَة: خصیہ کی تھیلی۔

۳۔ صَافَنَ الـمـاءَ بينهم: لوگوں میں پانی تقسیم کرنا۔ تَـصـافَنَ القومُ الماءَ: لوگوں کا پانی کو آپس میں تقسیم کرنا۔ الصُفن: مشک، چرواہے کا تھیلا۔ الصَفَن جمع صُفْن و صُفُن وأصـفان و صُفْنان: چمڑے کی چھاگل۔ الـصَـفْـنَـة: دسترخوان، چرواہے کا تھیلا۔ (توبرہ)

۴۔ الصَافِن جمع صـافنات وصوافِن و صُفُون: پنڈلی کے نیچے کی ایک رگ۔ الصَفَن جمع صُفْن و صُفَن و أُصْفَان و صُفْنَان: مستی کے وقت اونٹ کے منہ کی جھاگ۔ الـصَفْنَة: مستی کے وقت اونٹ کے منہ سے نکلنے والی جھاگ۔

صَفَنَ ـِ ب: ایک پاؤں تھوڑا سا اٹھا کر کھڑا ہونا۔—: غور و فکر کرنا، کڑھنا، بغور سوچنا۔ صَفَن جمع أصـفان: خصیوں پر مشتمل کھال کا کیسہ۔

صفا: ۱۔ صَفَا ـُ صَفْوًا و صَفَاءً و صُفُوًّا: صاف ہونا۔ الـجـوُّ: فضاء کا ابر سے صاف ہونا، مطلع صاف ہونا۔ القدرَ: ہانڈی کا خالص حصہ لے لینا۔ صَفَّى تَصْفِيَةً الشيءَ: چیز کو صاف کرنا۔ الـصَـافِي (فا): صاف۔ يـوم صـافٍ: ابر وغبار وغیرہ سے پاک صاف دن۔ كلأ صافٍ: صاف ستھرا سبزہ یا گھاس۔ الصَافية جمع صَوَافٍ: الصافی کا مونث، وہ زمین جس کے بسنے والے اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں یا مر گئے ہوں اور ان کا کوئی وارث نہ ہو۔ الـصَـفْـو والـصَـفْـوَة والصُفْوَة من كل شيء: خالص اور عمدہ چیز۔ عـنـد العامة: راکھ۔ الـصِفْوة: طرز صفائی۔— من كل شيءٍ: خالص اور عمدہ چیز۔ عـنـد العـامة: راکھ۔ يـوم صَـفْوَان: صاف دن۔ الـصَفِيّ: ہر خالص چیز۔ الـمِـصْفَاة جمع مَصَافٍ: چھلنی، صافی۔

۲۔ صَفَا ـُ صَفْوًا وصَفْوَ ـُ صَـفَاوَةً ت الناقةُ: اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔ الصَفِيَّة جمع صَفَايا: بہت دودھ والی اونٹنی، بہت پھل لانے والا درخت خرما۔

۳۔ صَافَى مُصَافَاةً فلانًا: سے خالص محبت کرنا۔ أَصْفَى اصـفـاءً فـلانـا الودَّ وأَصْفَى له الودَّ: سے خالص محبت کرنا۔ تَـصَـافَى القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے سے خالص محبت کرنا۔ اسْتَـصْـفَى الرجُلَ: کو خالص دوست شمار کرنا کہتے ہیں: استصفاه و اصطفاه: اس نے اسے چن لیا اور مخلص دوست بنالیا۔ الصَفْو: محبت میں خلوص۔ الـصِـفوة: مخلص دوست۔ الـصَفِيّ جمع اصـفـيـاء م صَـفِـيّ و صَـفِيَّة: مخلص دوست۔ المُصْطَفَى: چنا ہوا، برگزیدہ، برتر۔ المُصْطَفَى: پولوس پیغمبر کا لقب۔

۴۔ أَصْفَى اصْفـاءً الذي يحفرُ: کھودنے والے کا کھودتے کھودتے اس پتھر تک پہنچنا جو کھدائی کو بند کر دے۔ ت الدجاجة: مرغی کا انڈے دینا بند کر دینا۔ الشـاعـرُ: شاعر کا شعر کہنے سے رک جانا۔ اسی سے ہے۔ انا شاكرك الذي يصفي و شاعرك الذى لا يُـصْـفِـي: میں تمہارا وہ شکر گزار ہوں جو تم سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ شاعر جس کے اشعار نہیں رکتے۔ من المال: بے مال ہونا، مال سے خالی ہونا۔ الصفا: الـصـفـاة: کی جمع پطرس پیغمبروں کے سردار کا لقب (یہ سریانی لفظ ہے اور اس کا معنی چٹان ہے) الـصـفـاه جمع صَفَـا و صَفَوَات وجمع الجمع أصْفـاء و صُفِيّ و صِفِـيّ و الـصَفْوَانة جمع صَفْـوَان و صَفوان والصفواء: سخت بڑا پتھر۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ لا تُقْرَعُ له صَـفَاةٌ: یعنی فلاں کو کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ فلانٌ لا تَنْدَى صَفَاتُهُ: یعنی فلاں بخیل ہے۔ الصِفوة من الـمـاء و نحوه: تھوڑا پانی وغیرہ۔ الـصَفْوَان: چکنی چٹان۔

۵۔ اصْفَى ہُ بكذا: کو سے مخصوص کرنا، راضی کرنا۔ الشيءَ: چیز تمام کی تمام لے لینا۔ اسْتَصْفَى المالَ: سب کا سب مال لے لینا۔ الصَفِيّ والصَفِيَّة من الغنيمة جمع صَـفَـايـا: مال غنیمت کا وہ حصہ جس کو رئیس اپنے لئے مخصوص کرے۔

صفا ـُ صَفْـوًا و صُفُوًّا و صَفَاءً: صاف ہونا یا ہو جانا، غیر آلود، وصاف ستھرا ہونا، صاف شفاف اور نتھرا ہوا ہونا یا ہو جانا، بے ابر ہونا، پرسکون ہونا، متین ہونا، خالص ہونا یا ہو جانا۔ صفا لِ: واضح مقصد کیساتھ اور تن دہی سے کوئی کام کرنا یا کی کاوش کرنا، کا مکمل طور پر عادی ہونا، تنہا میں مشغول ہونا، منہمک ہونا (دل و ذہن کا) کے لئے خاص کر تیار ہونا۔ صَفَّى ہ: کو صاف کرنا، صاف شفاف کرنا، نتھرا ہوا کرنا یا نتھارنا، خالص بنانا، واضح کرنا، پاک کرنا، خالص بنانا۔ -- مسـالة: کوئی مشکل مسئلہ طے کرنا، سیدھا کرنا۔ -- ہ: کسی چیز سے پانی نکالنا یا انڈیلنا۔ صـفـاه مـن المـاء: یہی اوپر والا معنی۔ -- ہ: کو نمی سے پاک کرنا، کو خشک کرنا۔ ہ مـن: کو کچھ دور کر کے صاف کرنا، پاک کرنا، کی تصحیح کرنا۔ ہ: کو ٹپکانا، فلٹر کرنا، چھاننا۔ - ہ: کو نبٹانا، چکانا، ادا کرنا، کا فیصلہ کرنا، قرض ادا کرنا، قرض چکانا، کا دیوالہ نکالنا، وصول کرنا (اثاثہ، سرمایہ)۔ صافاه: سے مخلص ہونا، کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ برتاؤ رکھنا۔ اصفى ہ او لِ: سے مخلص ہونا، کیساتھ دیانت دارانہ برتاؤ رکھنا۔ أصـفـى: مالک یا قابض نہ رہنا، محروم ہو جانا۔ (حق) ساقط ہو جانا، شعر کہنا بند کر دینا۔ أصـفـاه بـالشيء: کسی چیز کے لئے کو ذہن میں رکھنا، کے لئے کو چننا، منتخب کرنا، دوسروں کے مقابلہ میں کسی کو کوئی چیز دینا۔ دون فـلانٍ: کو کچھ عطا کرنا، جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ تـصَـافى: ایک دوسرے سے مخلص ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ دیانت دار ہونا، ایک دوسرے کے لئے خالص نیت رکھنا۔ اصـطـفى ہ: کو چننا، منتخب کرنا۔ استصفى ہ: کو چننا، منتخب کرنا۔ -- ہ: کو صاف

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اورخالص سمجھنا۔ استصفی مالَه کا تمام اثاثہ وصول کرنا، کی جائیداد ضبط کرنا، قرق کرنا۔ صَـفـو صفائی، وضاحت شُستگی، صاف شفاف ہونا، سکون، وقار، متانت، پاکیزگی، خالص ہونا، مطلع کا صاف ہونا، بے ابر ہونا، خوشی، سرور، روانی، برجستگی، صاف، شفاف، پرسکون، خالص، محض۔ صَـفـوَۃ بہترین حصہ، منتخب ترین حصہ، بہترین۔ لب لباب، عطر، جان، ممتاز افراد، زعماء، جوہر، کامل نمونہ۔ صـفـا اسم جمع واحد صفاۃ جمع صفوات پتھر، چٹانیں۔ صَفوَان پتھر، چٹانیں۔ صِفوۃ مخلص دوست، بہترین دوست۔ دلی دوست، جگری یار۔ صفاء صفائی، صاف شفاف ہونا، سکون، بے ابر ہونا، متانت، خالص ہونا، پاکیزگی، خوشی، روانگی برجستگی، اخلاص، دیانت داری، خلوص، صاف گوئی۔ ساعاتُ صفاء خوشگوار وقت، مسرت بخش گھڑیاں۔ صَـفِـیّ صاف، شفاف، پرسکون، متین، بےابر، خالص۔ محض جمع أصفیاء خالص دوست، بہترین دوست، دلی دوست۔ صَـفِـیَّۃ جمع صَـفَـایا قائد کا غنیمت میں حصہ۔ مَـصْـفَی صاف سازی کا کارخانہ۔ مِـصفی چھلنی۔ مِـصـفَـاۃ جمع مَـصَافٍ چھلنی، فلٹر، چھاننے کا کپڑا۔ صاف کرنے کا کارخانہ۔ مِـصـفَـاۃ القهوۃ قہوہ کا فلٹر، قہوے کا سماوا۔ تـصْفِیَۃٌ جمع تـصـفیات توضیح، وضاحت۔ کلیرنس Clearance، صاف کرنا، پاک کرنا، خالص بنانا، فلٹر کرنا، اخراج، تصفیہ، سیدھا کرنا۔ تطابق، تطبیق، انضباط، حساب بیباق کرنا، دیوالہ، کلیرنس سیل۔ تـصـفـیـۃ الحسابات تصفیہ حساب۔ مـامـور الـتـصـفـیـۃ دیوالئے کا سرکاری، متولی۔ مُصافاۃ تپاک، گرمجوشی، اتفاق، اتحاد، ہم آہنگی، خیر اندیشی، خیر سگالی، خیر خواہی، مخلص رویہ با مزاج۔ تصاف پرامن تصفیہ، سمجھوتہ۔ ۔ بین: کے مابین۔ مصالحت۔ اصطفاء انتخاب۔ استصفاء الاموال: جائیداد کی ترقی۔ صـافٍ: صاف، شفاف، خالص، سیدھا، غیر ملاوٹ شدہ، پرسکون، اصل، خالص ۔ صـافی النیۃ مخلص، صاف دل، صاف گو، صاف باطن، بےلاگ، پرخلوص۔ صافی الحمولہ خالص باربرداری کی گنجائش۔ صافی الارباح خالص منافع۔ مُصَفٍّ دیوالئے کا سرکاری متولی۔ مُصَفًّی پاکیزہ، پاک، خالص، صاف، شفاف، بےابر۔ مُصْطَفًی: چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ المُصطفی نبی کریم کا لقب۔

صقب ا۔ صَقِبَ -صَقَبًا المکانُ: جگہ کا قریب ہونا، دور ہونا (ضد)۔ صَـاقَبَ صِقَابًا و مُصَاقَبَۃً ہُ کے قریب ہونا نزدیک ہونا کہتے ہیں: لقیتُه صِقَابًا میں اس سے روبرو ملا۔ أصقَبَ ہُ کو قریب کرنا، نزدیک کرنا۔ الشيء ہُ چیز کا قریب ہونا کہتے ہیں: اَصْقَبَکَ الصیدُ شکار تیرے نزدیک آیا اور تمہارے لئے اس کو تیر مارنا ممکن ہوا۔ الصَقَب و الصَقِب قریب نزدیک کہتے ہیں: داری من داره بصَقَبٍ میرا گھر اس کے گھر کے قریب ہے۔ الجارُ أحقُّ بصقبه پڑوسی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قریب ہوا جائے۔ المُصَاقَبَۃ (عند المولّدين) موافقت، مطابقت۔ اس کا تلفظ ''س'' سے بھی کیا جاتا ہے۔

۲۔ صَقَبَ -صَقْبًا ہُ: کوتھپڑ مارنا۔ ـــ الشيءَ کو جمع کرنا۔

۳۔ صَقَبَ-صَقْبًا الطائرُ پرندہ کا آواز کرنا۔

۴۔ صَقَبَ -صَقَبًا البناءَ: عمارت کو اونچا کرنا، بلند اٹھانا۔ الصقب (مص) گھر میں سب سے لمبا کھمبا جمع صُقوب جمع صقاب و صُقبان ہر لمبی چیز۔

۵۔ الصَیْقَبانی: عطار، عطر فروش۔

۞ صَـاقَبَ ہ: کے قریب آنا یا جانا، کا پڑوسی ہونا۔ -- ہ سے متصل، ملحق ملا ہوا ہونا۔ مُصَاقَبَۃ قرابت داری، رشتہ داری، رشتہ، تعلق (ازار بندی) دوستی، انس، رغبت۔

صقح الصَقح و الصَقَحَۃ: گنج۔ الأصْقَح م صَقحاء: گنجا۔

صقر ا۔ صَقَرَ -صَقْرًا ہُ بالعصا: کولاٹھی سے مارنا۔ صَقَرَنی بکلامِهِ اس نے باتوں سے مجھے تکلیف پہنچائی یعنی گویا خوب درگت بنائی۔ بـهِ الارضَ کو زمین پر گرانا۔ الحجارۃَ پتھر کو ہتھوڑے سے توڑنا۔ الصاقور ہتھوڑا (پتھر توڑنے کا) کدال، زبان۔ الصاقُور و الصاقِرۃ مصیبت، سخت آفت۔ الصَقّار: چغلخور، غیر مستحق لوگوں کو لعنت کرنے والا۔

۲۔ صَقَرَ -صَقْرًا و صَقْرَۃً تِ الشمسُ او النارُ: آفتاب کا تیز گرم ہونا، آگ کا جلنا۔ تـهُ الشمسُ آفتاب کا کسی کو جھلس دینا۔ النارَ آگ جلانا۔ صَقَّر النارَ آگ جلانا۔ أصقَرتِ الشمسُ او النارُ آفتاب کا تیز گرم ہونا، آگ کا جلنا۔ تصقَّر و اصطَقَر ت النارُ: آگ کا جلنا۔ صَقَرُ دوزخ جہنم (غیر منصرف) سقر میں ایک لغت۔

۳۔ صَقَرَ -صَقْرًا و اِصْقَرَّ اللبنُ: دودھ کی کھٹاس کا تیز ہونا۔ الصَقر جمع صُقور و صِقار سخت کھٹا، دودھ۔ الصَقِرۃ سخت کھٹا دودھ۔

۴۔ تَصَقَّرَ شکرے سے شکار کھیلنا۔ الصَقر جمع أصْقُر و صُقُور و صُقُورَۃ و صِقارَۃ و صُقُر: (ح) شکرا، ہر شکاری پرندہ، بجز گدھ اور عقاب (شاہین) کے۔ ـــ صائدُ الحیّات (ح) ایک خوبصورت لمٹنگا پرندہ جس کی خوراک حشرات الارض اور بالخصوص سانپ ہے۔ صقرٌ صافِرٌ تیز نظر شاہین۔ الصُقرَۃ پرندہ کی سبزی یا سیاہی کا سرخی یا زردی سے ملنا۔ امرأۃ صَقِرۃٌ تیز فہم تیز نظر عورت۔

۵۔ تَصَقَّرَ بالمکان: میں ٹھہرنا۔ الصَقْر جمع صُقُور و صِقار بڑا ہوا پانی۔ الصَقَرۃ حوض میں بقیہ پانی۔

۶۔ الصَقَر و الصَقْر ترکھجور یا خشک انگور کا شیرہ کہتے ہیں: هذا التمر اصقر من ذاك یہ کھجور اس سے زیادہ شیرہ والی ہے۔ الصَقِر من الرطب او الزبیب تر کھجور یا خشک انگور جو رس نکلنے کے قابل ہو۔ الصُقَر او الصُقاری کہتے ہیں: جاء بالصُقر و البُقَر او بالصُقاری و البُقاری اس نے جھوٹ بولا۔ الصاقُورۃ کھوپڑی کا اندرونی حصہ۔ الصَقّار کافر، شیرہ ساز، شیرہ فروش۔ ابو مِصقار (ح) ایک قسم کی مچھلی، عام لوگ اسے بِـصـقـار کہتے ہیں اور اس سے پہلے ابو کا لفظ نہیں بولتے۔

۞ صَقر جمع صُقور و أصقُر باز، شکرا، شاہین۔ صَاقُور پتھر توڑنے کا ہتھوڑا۔

سقع ا۔ صَقَعَ -صَقْعًا ہُ: کے سر پر مارنا۔ ـــ بـه الارضَ کو زمین پر پچھاڑ دینا۔ کہتے ہیں: صَقَعَتْهُ الصاعقۃ: بجلی اس کے اوپر گری۔ صَقِعَ -صَقَعًا الرجُلُ: بےہوش ہونا۔ ـــ ت البئرُ: کنویں کا ڈھے جانا۔ الصاقعۃ بجلی (آسمان کی) الصقعاء: سورج۔

۲۔ صَقَعَ -صَقْعًا الرجُلُ: جانا (کہتے ہیں: ما ادری این صَقَعَ میں نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا) راستہ سے ہٹ جانا یا بھلائی و کرم کے راستہ سے دور ہو جانا۔ الصُقْعُ جمع أصقاع گوشہ، کنارہ۔ الصَقِع دور آنکھوں سے اوجھل جس کا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ الصاقِع (فا) بہت جھوٹا کہتے ہیں: صَه صاقعُ: یعنی اے جھوٹے، خاموش رہ۔ الصاقِعۃ: الصاقع کا مؤنث۔

۳۔ صَقَعَ -صَقْعًا و صُقَاعًا و صَقِیعًا الدیكُ: مرغے کا چیخنا۔ ـــ صَقْعًا و صُقاعًا بصوته اپنی آواز بلند کرنا۔ المِصقَع جمع مَصاقِع اونچی آواز والا۔ فصیح بلیغ، جو بولتا چلا جائے کہتے ہیں۔ خطیب مِصْقَع مقرر جو بولتا چلا جائے۔

۴۔ صَقَعَ -صَقْعًا الحمارَ بِکَيٍّ: گدھے کے سر پا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چہرے پر داغ لگانا۔ صَقِعَ - صَقَعًا الفرسُ او الطائرُ گھوڑے یا پرندے کے سر کا بیچ سے سفید ہونا۔ صفت۔ أصقع۔ الصَقَع (مص) سر پر بال کم ہونا یا نہ ہونا۔ الصَقِع گنجا۔ الصُقعة گھوڑے یا پرندے وغیرہ کے سر کے بیچ میں سفیدی۔ الصِقاع: اونٹ کی گدی پر داغ۔ الصَقعاء: الأصقع کا مونث۔

۵۔ صُقِعَ المكانُ: کسی جگہ پر پالا پڑنا۔ صَقِعَ الماءُ او غيرُهُ: برف کی طرح پانی وغیرہ کا ٹھنڈا ہونا۔ أَصْقَعَ الرجُلُ یخ پر چلنا۔ الصقيع الأرضَ زمین پر پالا پڑنا۔ أُصْقِعَ المكانُ: کسی جگہ پر پالا پڑنا۔ الصَقَع سخت سردی کی بے آرامی۔ مكانٌ صَقِعٌ وہ جگہ جہاں پالا پڑا ہو، برف گری ہو۔ الصَقعة اسم مرة — عند المولدين سخت سردی۔ الصَقاعة (عند المولدين) سرد مزاجی۔ سرد مہری۔ الصَقِيع: پالا، یخ۔

٦۔ صَقَعَ لِفلان: کسی بات کے لئے کسی سے قسم کھانا۔

٧۔ الصِقاع: اوڑھنی کو چکنائی سے بچانے کے لئے سر پر باندھنے کا رومال، برقع، اونٹنی کے منہ پر باندھنے کی جالی۔ صِقاع الخباء تیز ہوا چلنے پر خیمہ کو گرنے سے بچانے کے لئے باندھی جانے والی رسی۔ الصَقِيع ایک قسم کی بھڑ۔

٨۔ صَوْقَعَهُ: کے سر پر مارنا۔ الصَوقعة (مص) پگڑی، سر کا وسط، اوڑھنی کو چکنائی سے بچانے کا رومال۔

٩۔ الصَقعَب: لمبا، آواز کرنے والا (دانت یا دروازہ)

١٠۔ صَقْعَرَ في اذنه: کے کان میں چلانا۔ الصُقْعَر: ٹھنڈا پانی، سڑا ہوا پانی۔

○ صَقَعَ - صَقْعًا و صُقاعًا: مرغ کا بانگ دینا، ٹکڑوں کو پر کرنا۔ صُقِعَ زمین کا پالے سے ڈھکی ہونا۔ صَقِعَ برف ہونا، یخ ہونا، یخ ٹھنڈی ہونا، منجمد ہونا۔ صُقْع جمع أصقاع رقبہ، علاقہ، سرزمین، دیہات، ضلع، زمین، مقام، جگہ۔ الأصقاع المُتَجَمِّدَة الجَنوبِيَة قطب جنوبی منجمد۔ صَقْعَة پالا، سخت ٹھنڈ۔ صَقِيع پالا، یخ۔ أصقع زیادہ فصیح۔ مِصْقَع جمع مَصاقِع فصیح، بلند آواز شخص۔

صقل ١۔ صَقَلَ - صَقْلاً و صِقالاً الشيءَ: کو چکنا کرنا، کو پالش کرنا، جلا دینا، صاف کرنا، کا رنگ صاف کرنا۔ صفت: صاقِل جمع صَقَلَة صفت مفعولی مصقول۔ صَقِلَ - صَقَلاً: صیقل شدہ ہونا، چکنا ہونا۔ الصَقّال: الصاقل کا مبالغہ۔ الصَقِيل: پالش شدہ، صیقل شدہ، تلوار۔ الصَيْقَل جمع صَياقِل و صَياقِلَة: صاقل کا مبالغہ، تلواریں تیز کرنے والا۔

المِصْقَلة: جس چیز سے پالش کیا جائے۔ ریگ مار۔

٢۔ صَقَلَ - صَقْلاً و صِقالاً الدابّةَ: جانور کو دبلا کرنا۔ الصَقَل گھوڑے کے پہلو کی لمبائی۔ الصُقْل پہلو، سبک جانور۔ و الصُقْلة کمر۔ الصَقِل کم گوشت کا گھوڑا۔ فرسٌ صَقِل لمبے پہلوؤں والا گھوڑا۔

٣۔ صَقَلَ - صَقْلاً و صِقالةً بالعصا کو لاٹھی سے مارنا۔ به الارضَ کو زمین پر گرا دینا۔

٤۔ الصَقِل: مختلف چال والا۔ الصِقالة: پاڑ۔ المِصْقَل من الخطباء فصیح و بلیغ مقرر۔

○ صَقَلَ - صَقْلاً و صِقالاً ہ کو پالش کرنا، رگڑ رگڑ کر صاف کرنا، صیقل کرنا، جلا دینا۔ ہ (اسلوب، ذوق وغیرہ) کو شاندار بنانا۔ انصقل صاف و ہموار ہو جانا۔ صَقْل پالش کرنا، صیقل کرنا، جلا دینا۔ صقل الاذهان ذہنی تربیت۔ صَقِيل پالش شدہ، صیقل شدہ، صاف و ہموار، روشن، چمکیلا، چمکدار، بھڑکیلا۔ صَقّال پالش کرنے والا، صیقل کرنے والا، صاف و ہموار کرنے والا۔ صَيْقَل جمع صَياقِلَة پالش کرنے والا، صیقل کرنے والا، صاف و ہموار کرنے والا۔ مِصْقَلَة جمع مَصاقِل وہ اوزار جس سے جلا دی جائے، صیقل کیا جائے۔ مصقول: پالش شدہ، صیقل شدہ، تیز فہم، شاندار (سمجھ)۔

صلك ١۔ صَكَّ - صَكًّا ہُ: کو زور سے مارنا، تھپڑ مارنا۔ اصْطَكَّ القومُ بالسيوفِ تلواروں سے ایک دوسرے سے لڑنا۔ الأَصَكّ م صَكّاء جمع صُكّ مضبوط و قوی۔ الصَكّاك: زور سے طمانچہ مارنے والا۔ الصَكِيك کمزور ضعیف۔ المِصَكّ مضبوط و قوی۔ المَصْكُوكات: درہم و دینار۔

٢۔ صَكَّ - صَكًّا البابَ: دروازہ بند کرنا۔ المِصَكّ: چٹخنی۔

٣۔ صَكَّ - صَكَكًا الرجُلُ او الفرسُ: آدمی یا گھوڑے کے گھٹنوں کا چلنے میں آپس میں ٹکرانا۔ صفت اَصَكّ و تَصاكّت الرُكَبُ زانوؤں کا ایک دوسرے سے رگڑ کھانا۔ اصطكّت رکبتاہُ چلنے میں گھٹنوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ الأَصَكّ م صَكّاء جمع صُكّ وہ جس کے گھٹنے چلنے میں آپس میں ٹکرائیں۔ وہ جس کے دانت اور داڑھیں آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ المِصَكّ: مضبوط و قوی۔

٤۔ الصَكّ جمع أَصُكّ و صُكوك و صِكاك: کتاب، تحریری معاہدہ، اقرار نامہ (فارسی) الصَكّاك وثیقہ نویس، چیکوں کی حفاظت کرنے والا۔

○ صَكَّ - صَكًّا: مارنا۔ ہ دروازہ بند کرنا، مقفل کرنا۔ صَكَّت به الاذانُ نے کانوں کو جھنجھناہٹ ہونا، کانوں کا بجنا۔ صَكَّ سمعَهُ (آواز کا) کانوں پر پڑنا۔ کے کانوں میں گرجنا۔ اِصْطَكَّ: آپس میں ٹکرانا (گھٹنوں کا) کانپنا، ہلنا (دانت) بجنا۔ صَكّ جمع صُكوك و صِكاك و اَصُكّ معاہدہ کی دستاویز، قانونی دستاویز، دستاویز، تحریر، چیک (Check, cheque)

صکم: صَكَمَ - صَكْمًا ہُ: کو مارنا۔ الفرسُ على لجامه: گھوڑے کا لگام کو چبا کر گردن دراز کرنا جیسے وہ اپنا غلبہ ظاہر کر رہا ہو۔ الصَكْمَة سخت صدمہ۔ الصَواكِم مصائب و حوادث کہتے ہیں: صَكَمَتْهُ صَواكِمُ الدهر اس پر زمانہ کی مصیبتیں پڑیں۔

صل ١۔ صَلَّ - صَلِيلاً السلاحُ: ہتھیار کی جھنکار سنائی دینا۔ — الشيءُ آواز کرنا۔ — المسمارُ کیل کا کسی چیز میں ٹھونکا جانا۔ — ت الابلُ پیاس کی وجہ سے اونٹوں کی آنتوں کا خشک ہو جانا اور پانی پیتے وقت ان سے آواز سنائی دینا۔ — السقاءُ مشک کا خشک ہونا۔ — صُلالاً الخُفُّ: موزے میں استر لگانا۔ الصِلّ جمع أَصْلال شمشیر برآں، تیز تلوار۔ و الصَلّ ہلکی اور متفرق بارش۔ الصَلَّة اسم مرة۔ ہلکی اور متفرق بارش، رنگائی سے پہلے خشک چمڑا، جوتا جو خشک ہونے کی وجہ سے آواز کرتا ہو، رنگائی میں سڑانڈ والا چمڑا، زوردار اور دور دور تک ہونے والی بارش۔ الصِلالة جمع أَصِلَّة چمڑی موزے کا استر۔ الصَلال و المِصْلال من الطين خشک کھنکتی مٹی جو لوہے کی طرح بجے۔ الصَلِيل: (مص) لوہے یا تلوار کی جھنکار خصوصاً تلوار کی جھنکار۔ المُصَلِّل: کثیر بارش۔

٢۔ صَلَّ - صُلُولاً اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ — پانی کا رنگ اور مزہ بدلنا۔ أَصَلَّ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ القِدَمُ الماءَ دیر تک ٹھہرے رہنے سے پانی کو متغیر کر دینا، سڑانا اور بدبودار کرنا۔ الصُلّ سڑا ہوا گوشت وغیرہ۔ الصَلَّة بچا ہوا پانی وغیرہ۔ ماءٌ صِلال: متغیر پانی۔

٣۔ صَلَّ - صَلاًّ الشرابَ: مشروب یا شراب صاف کرنا۔ الحبَّ المختلط بالتراب پانی ڈال کر دانہ کو مٹی سے علیحدہ کرنا، اس کا مشہور فعل صَوَّلَ ہے کہتے ہیں۔ صَوَّلَت المرأةُ القمحَ وغیرہ عورت نے گندم کو مٹی سے صاف کیا۔ صُلالة الحبّ غلہ کا کوڑا کرکٹ۔ المِصَلّة صاف کرنے کا برتن۔

٤۔ صَلَّ - صَلاًّ ت الصالّةُ القومَ: قوم کو مصیبت پہنچنا۔ الصِلّ جمع اَصْلال مصیبت (ح) ایک بہت

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زہریلا سانپ کہتے ہیں: هو صِلُّ أصلالٍ: وہ بڑا ہی چالباز اور فریبی ہے۔ الصَّالَّة: مصیبت۔
۵۔ الصِّلُ جمع أصْلال: ہمسر، ثانی کہتے ہیں: هذا صِلُّ ذاك: یہ اس کا مدمقابل ہے۔ الصَّلَة: سرین، تازہ گھاس کے متفرق ٹکڑے، ترمٹی۔ الصُّلَّة: بدبودار ہوا۔ المُصَلِّل: شریف، فیاض سردار، خالص النسب
۶۔ صَلْصَلَ صَلْصَلَةَ الحليُّ او اللجام: زیور، یا لگام کا آواز دینا۔ الرعدُ: بادل کا صاف گرجنا۔ —— الجرسُ: گھنٹی کا گونجنا۔ فلانًا: کو دھمکی دینا۔ تَصَلْصَلَ اللجام اولحليُّ: زیور یا لگام کا آواز دینا۔ الصَّلْصَال: سوکھی بجنے والی مٹی (ط) ریت سے ملی ہوئی مٹی۔ — و الصُّلاصِل و المُصَلْصِل: آواز دینے والا گدھا۔
۷۔ الصُّلْصُل: گھوڑے کی پیشانی، گھوڑے کی پیٹھ کا سفید حصہ۔ چھوٹا پیالہ، برتن میں بچا ہوا پانی وغیرہ، ماہر چرواہا۔ الصَّلْصَالَة: زمین جس پر کوئی نہ ہو۔ المُصَلْصَل: (مصدر میمی) شریف فیاض سردار، خالص النسب۔
○ صَلَّ ـِ صَلِيلًا: بجنا، چھن چھن کرنا، جھنکار پیدا کرنا، کھڑکھڑانا، جھن جھن کرنا۔ صِلٌّ جمع اصلال: ایک قسم کا زہریلا سانپ۔ صَلِيل: کھڑکھڑاہٹ، گڑگڑ، جھن جھن، پھٹ پھٹ، گڑگڑاہٹ (ہتھیاروں کا) تصادم، ٹکراؤ (سکوں کی) جھنکار، چھن چھن، جھناکا۔
صلب: ۱۔ صَلَبَ ـِ صَلْبًا هُ: کو سولی دینا۔ صَلَّبَ اللصَّ: چور کو سولی دینا۔ المسيحيُّ: عیسائی کا اپنے اوپر ہاتھ کے اشارہ سے صلیب بنانا۔ الصَّلَبُوت: (عیسائیوں کی اصطلاح میں)، چھوٹی صلیب۔ الصَّلِيب جمع صُلْبان و صُلُب: سولی جس پر جناب مسیح کو سولی دی گئی، سولی کا نشان، جو دو متقاطع خطوں کی شکل کا ہوتا ہے، سولی۔ جمع صُلَبٌ: سولی دیا گیا (شخص) اونٹ کا داغ۔ ذو الصليب: الاخطل، نصرانی شاعر کا لقب۔ بعير مُصَلَّب م مُصَلَّبَة: اونٹ جس پر صلیب جیسا نشان ہو۔ شيءٌ مُصَلَّب عليه: وہ چیز جس پر صلیب کی تصویر بنی ہو۔ ثوبٌ مُصَلَّب: وہ کپڑا جس پر صلیب جیسی شکل بنی ہو۔ مُصَلَّب الطرق (عند العامة): چوراہا۔ بعيرٌ مَصْلُوب م مَصْلُوبة: وہ اونٹ جس پر صلیب جیسا داغ ہو۔
۲۔ صَلَبَ ـِ صَلْبًا العظام: ہڈیوں سے گودا نکالنا۔ اصطلب العظامَ: ہڈیوں کا گودا نکالنا۔ الصُّلْب جمع أصْلاب و اصلُب و صِلَبَة: ریڑھ کی ہڈی۔ و۔ جمع صِلَبَة: حسب کہتے ہیں۔ هو من صُلْبِ فلان: وہ اسکی نسل اور اولاد سے ہے۔ الصَّلَب جمع صِلَبَه و أصْلاب: ریڑھ کی ہڈی، گودا۔ الصالِبُ والصالَب: ریڑھ کی ہڈی۔ الصُّلَّب: ریڑھ کی ہڈی۔ الصَّلِيب جمع صُلُب: گودا، (کہتے ہیں: استخرج صَلِيبَ العظم: اس نے ہڈی کا گودا نکالا)۔ خالص نسب والا کہتے ہیں: هو عربيٌّ صليبٌ: وہ خالص عربی نسب کا ہے۔
۳۔ صَلُبَ ـُ و صَلِبَ ـَ صَلابةً: سخت ہونا۔ — على المال: بخیل و کنجوس ہونا۔ صَلَّبَ الشيءَ: چیز کو سخت کرنا۔ الشيءُ: سخت ہونا، خشک ہونا۔ تَصَلَّب: سخت ہونا۔ الصُّلْب جمع اصلاب و اَصْلُبٌ: سخت، کٹر۔ کہا جاتا ہے: هو صُلْبٌ في دينه: وہ اپنے دین میں سخت ہے۔ راعٍ صُلْبُ العصا: اونٹوں پر سختی کرنے والا چرواہا۔ جمع صِلَبَه: قوت، طاقت، موٹے پتھروں والی جگہ، فولاد۔ الصَّلَب جمع صِلَبَة و أصلاب: وہ زمین جو سخت ہو، ان زمینوں کو کہا جاتا ہے جو عرصہ تک پڑی رہیں اور جوتی نہ جائیں: انها لأصْلابٌ منذ اعوام: یعنی کئی سالوں سے غیر مزروعہ ہیں۔ الصُّلَّب: سخت، سان۔ الصُّلْبَة: سان کے پتھر۔ الصُّلَّبِيّ: سخت، سان پر پالش اور تیز کیا ہوا۔ سِنان صُلَّبِيّ: تیز کی ہوئی نیزہ کی انی۔ الصُّلَّبِيَّة: (جس میں تاء مبالغہ کی ہے)۔ بہت سخت۔ الصَّلِيب جمع صُلُب: سخت۔ ماءٌ صَلِيبٌ: پانی جس کی وجہ سے مویشی مضبوط اور سخت ہو جائے۔ سنانٌ مُصَلَّب: تیز کی ہوئی نیزہ کی انی۔
۴۔ صَلَبَ ـِ صَلْبًا اللحمَ: گوشت بھوننا۔ تهُ الشمسُ: آفتاب کا کسی کو جھلس دینا۔ ت عليه الحُمّى: کسی کو بخار کا چمٹ جانا اور تیز ہونا۔ صفت۔ مصلوب عليه الصالِب (فا) حُمّى صَالِبٌ: جاڑے لرزے کا سخت بخار۔
۵۔ صَلَبَ الحجرَ: پتھر اٹھانا (سریانی)۔ أصْلَبَتِ الناقةُ: بچہ کو دودھ پلاتے وقت اونٹنی کا گردن کو آسمان کی طرف اٹھانا۔
۶۔ الصُّلَب: (ح) ایک پرندہ۔ الصَّلِيب جمع صُلُب: جھنڈا۔
○ صَلُبَ ـُ صَلابةً و صَلِبَ ـَ: سخت ہونا، مضبوط و ٹھوس ہونا، جمنا، اکڑنا، کڑا ہونا۔ صَلَّبَ ہ / ھ: کو سخت بنانا، مضبوط کرنا، ٹھوس بنانا، بے لوچ بنانا۔ ھ: کا بوجھ اٹھانا، کو اٹھائے رکھنا، کا سہارا ہونا، کو تھامے رکھنا۔ —— ہ: (دل) سخت کرنا۔ تصلّب: سخت ہونا، مضبوط ہونا، ٹھوس ہونا، جمنا، کڑا ہونا، اپنے آپ کو سخت ظاہر کرنا۔ صُلْب: سخت، فولاد، جمع اصْلُب و اصْلاب: ریڑھ کی ہڈی، پٹھا (کتاب وغیرہ کا) متن۔ صُلْب الرای: ضدی، ہٹ کا پکا، ہٹ دھرم، خودسر، سرکش، خودرائے، اپنی رائے سے نہ ہٹنے والا۔ صَلْب الرَّقبة: ضدی ہٹ کا پکا، ہٹ دھرم، خودسر، سرکش، خودرائے، اپنی رائے سے نہ ہٹنے والا۔ صُلْب العُود: مضبوط جسم کا، ہٹا کٹا، قوی ہیکل، ضدی، ہٹ دھرم، مدافعت کرنے والا، نہ جھکنے والا، بے رحم، بے درد۔ هو ابن صُلْبِه: وہ اس کا اپنا بیٹا ہے۔ اولاد ہے۔ درامة مستخرجة من صُلْب الحياة: حقیقی زندگی سے ماخوذ ڈرامہ۔ في صلبه: دل میں، اپنے دل کی گہرائی میں۔ صَلِيب: سخت، مضبوط، ٹھوس، کڑا۔ صَلابَة: سختی، بے حسی، بے رحمی، ضد، ہٹ دھرمی، سرکشی منہ زوری، نہ جھکنا، تقصف، عدم رواداری۔ صَلابَة العُود: سختی، شدت، ضد، ہٹ دھرمی، بے لوچ ہونا، بیرحمی، بیدردی۔ تصلب: سختی، بے حسی۔ متصلب: نہ جھکنے والا، بے لچک، بیرحم، سخت۔ صَلَبَ ـِ صَلْبًا ہ: کو سولی دینا، سولی پر لٹکانا یا چڑھانا۔ صَلَّب على: پر صلیب کا نشان بنانا۔ —: بلیات سے محفوظ رہنے کے لئے، صلیب بنانا۔ — ہ: ہاتھ باندھنا۔ صَلْب: سولی دینا، دار کشی۔ صَلِيب جمع صُلْبان صُلُب: صلیب، سولی۔ الصليب الاحمر: ریڈکراس۔ شارة الصليب و اشارة الصليب: صلیب کا نشان۔ عُود الصليب: Peony ایک پھولدار پودا۔ الحروبُ الصليبية: صلیبی جنگیں۔ الصليبيون: صلیبی جنگجو۔ صَلَبُوت: صلیب پر مسیح کا چھوٹا سا مجسمہ۔ مُصَلَّب: چوراہا۔
صلت: ۱۔ صَلَتَ ـُ صَلْتًا الفرسَ: گھوڑے کو ایڑ لگانا۔ الصلت في عَدْوِه: دوڑ میں دوسرے سے آگے نکل جانا۔ الصَّلْت والاصْلِيت و المُنْصَلِتُ من الرجال: بہادر سرگرم۔ من السيوف: میقل شدہ پار ہونے والی تلوار۔ الصَّلتان و الأُصْلَتِيّ والإِصْلات و المُصْلَتُ والمِصْلاتُ من الرجال: بہادر سرگرم کہتے ہیں۔ هو من مصاليت الرجال: وہ بہادر اور چست و سرگرم مردوں میں سے ہے۔
۲۔ صَلُتَ ـُ صُلُوتةً الرجلُ: کشادہ، ہموار، پیشانی والا ہونا۔ أَصْلَتَ السيفَ: تلوار کو میان سے باہر نکالنا، تلوار سونتنا۔ الصَّلْت: چمکدار، ہموار ابھری ہوئی پیشانی کہتے ہیں: جبينٌ صَلْتٌ: چمکدار، ہموار ابھری ہوئی پیشانی۔ والصُّلْت جمع أصْلات: بڑی چھری۔
۳۔ المُصَالَتَة: شاعر کا دوسرے شاعر کے شعر کو لفظاً و معناً

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چرالینا، یہ بدترین شعری سرقہ ہے۔

○ صَلُتَ ۔صُلُوتَةً: چمکدار ہونا، بھڑکیلا ہونا، ہموار ہونا۔ أصلت السيفَ: تلوار کو میان سے نکالنا۔ أُصلِت السيفُ: تلوار کا میان سے باہر نکلنا۔

صلج: ۱۔ صَلَجَ ۔صُلُجًا الفضّةَ: چاندی کو پگھلانا۔ الصُلُج: کھرے درہم۔ الصَولَج: خالص چاندی۔ الصَليجَة: پگھلی ہوئی صاف خالص چاندی کی اینٹ

۲۔ صَلَجَ ۔صُلُجًا هُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

۳۔ صَلِجَ ۔صَلَجًا بسمعهٗ: بہرا ہو جانا۔ تَصالَجَ الرجُل: بہرا ہونے کا تصنع کرنا، بہرا بننا، کان نہ دھرنا۔ الصَولَج: کان، کان کا سوراخ۔

۴۔ الصُلجة جمع صُلَج: ریشمی کیڑے کا خول، کویا۔ الصَولج: ٹیڑھی لکڑی۔ الصَولَجان والصَولَجانة جمع صَوالجة: ٹیڑھے سرے والی لاٹھی۔ اسی سے ہے صولجان الملك: عصائے شاہی۔ الأصلَج: بہت چکنا۔

○ صلح: ۱۔ صَلُحَ ۔ُ و صَلَحَ ۔ُ صَلاحًا و صُلوحًا و صَلاحِيَةً: درست وٹھیک ہونا، کی خرابی کا دور ہونا کہتے ہیں۔ صلحت حالُ فلان: اسکی حالت کی خرابی دور ہوگئی اور مجاز کے طور پر کہتے ہیں۔ هذا يَصلُح لك صَلاحًا: یہ تمہارے لئے موزوں اور مفید ہے۔ صلح الرجُلُ: نیک ہونا۔ في عمله: کام میں درست ہونا۔ صالَحَ صِلاحًا و مُصالَحةً هٗ: کے موافق ہونا۔ أَصلَحَ الشيءَ: چیز کو ٹھیک کرنا، درست کرنا۔ — اليه: کے ساتھ نیکی کرنا۔ کہتے ہیں۔ اَصلح اللّٰهُ له في ذريته وماله: اللہ اس کی اولاد اور مال میں اس پر احسان فرمائے۔ اِستَصلَحَ الشيءُ: ٹھیک ہونا۔ الصِلاح: (مص) اچھائی موزونیت مفید ہونا، افادیت، نیکی، انصاف، دیانتداری، پارسائی، تقوی۔ الصلاحية: وہ حالت جس سے چیز کی درستی ہو۔ الإصلاحِيّة جمع اصلاحِيّات: حکومتی ادارہ جس میں نوعمر مجرموں کے اخلاق درست کرنے کے لئے قید کیا جاتا ہے اور انہیں کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ رہا ہو کر اپنی روزی کما سکیں، اصلاحی قیدخانہ۔ الصالح جمع صالحون و صُلّاح: درست، ٹھیک، نیک، حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا کہتے ہیں۔ هو صالحٌ لكذا: وہ اس کا اہل ہے، کبھی کثیر کے معنی بھی دیتا ہے جیسے له حظٌ صالحٌ من الادب: یعنی اس کا ادب میں کافی حصہ ہے۔ الصالحة: صالح کا مونث کہتے ہیں۔ اتتني صالحةٌ من فلان: فلاں کی طرف سے مجھ کو بہت نعمت یا بھلائی پہنچی۔ الصَلُحُ: صالح۔

الصليح ج صُلَحاء: صالح۔ المَصلَحة جمع مَصالِح: نیک تجویز۔ مصلحت کہتے ہیں۔ هو من اهل المفاسد لا المصالح: وہ ایسے کام کرنے والوں سے ہے جو برائی کا باعث ہوتے ہیں، کسی اچھائی یا بھلائی کی ترغیب نہیں پیدا نہیں کرتے۔

۲۔ صالَحَ صِلاحًا و مُصالَحةً هٗ: سے صلح کرنا۔ أصلح بينهم: کے مابین صلح کرانا۔ تَصالَحَ و اصتَلَحَ و اصطَلَحَ و اصَّلَحَ القومُ: صلح صفائی سے رہنا۔ الصُلح: سلامتی، مصالحت کا اسم ہے (مذکر و مونث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے) کہتے ہیں۔ هُم لنا صُلح: یعنی ان کی ہم سے صلح ہے۔ (عند ارباب السياسة): امن۔ الصُلوح: کہتے ہیں۔ قومٌ صُلوحٌ: آپس میں موافقت رکھنے والے لوگ۔ الاصطلاح جمع اصطلاحات: کسی خاص قوم یا جماعت کا کسی لفظ اور کلمہ کے معنی پر اتفاق کرنا جو اصل معنی کے علاوہ ہو۔

○ صَلَحَ ۔ُ صَلاحًا و صُلوحًا و مَصلَحَةً و صَلُحَ ۔ُ صَلاحًا صَلاحِيَةً: اچھا ہونا، ٹھیک ہونا، مناسب ہونا، نیک ہونا، خدا ترس ہونا، خدا پرست ہونا، دیندار ہونا، اچھا ہونا، خوب کامیابی سے چلنا، پنپنا، مفید ہونا، قابل عمل ہونا، کارآمد ہونا، پائیدار ہونا، موزوں ہونا ل (کے لئے)۔ لِ کے لئے موزوں ہونا، میں مفید ہونا۔ مع سے خوب میل کھانا، ملتا جلتا ہونا۔ کے فٹ آنا، پر منطبق ہونا۔ (میں، پر، کیساتھ) قابل قبول، قابل تسلیم، قابل تقریر یا اہل ہونا، جائز ہونا، روا ہونا۔ صَلَّحَ هٗ: کو ترتیب سے رکھنا، موافق یا مطابق بنانا، مرمت سے بالکل پہلا سا بنا دینا، سدھارنا، کی تلافی کرنا، کی مرمت کرنا، کو بہتر بنانا، کی اصلاح کرنا۔ صالَحَ هٗ: کے ساتھ صلح کرنا، تصفیہ، مصالحت، سمجھوتہ کرنا۔ — بين: کے مابین امن قائم کرنا، میں مصالحت کرانا، صلح کرانا۔ أَصلَحَ هٗ / من: کو ترتیب سے رکھنا، کے مطابق یا موافق بنانا، جانچ پڑتال کرکے یا کھول کر ٹھیک کرنا، مرمت کرکے پہلا جیسا بنا دینا، دوبارہ تعمیر کرنا، ترمیم کرنا، کی تلافی کرنا، بہتر بنانا، کی اصلاح کرنا، مرمت کرنا۔ — هٗ: کو موزوں یا فٹ بنانا، موافق یا مطابق بنانا، کو بدلنا، ترمیم کرنا۔ کی اصلاح کرنا، کا علاج کرنا، چارہ کرنا۔ — هٗ/من: زمین کو قابل کاشت بنانا، کاشت کرنا۔ — هٗ: کو ترقی دینا، بڑھانا، کے لئے کام کرنا، کو تقویت پہنچانا، کی ہمت بڑھانا، کا دل بڑھانا، کو جرأت دلانا۔ — هٗ: کو فروغ دینا، کو خوش قسمت بنانا۔ [illegible] کے درمیان صلح کرانا [illegible]

کرنا۔ تَصالَحَ: ایک دوسرے سے صلح کرنا، ہم آہنگ ہونا۔ اِنصَلَحَ: ٹھیک ہونا، صحیح ہونا، ترقی یافتہ ہونا، سدھرنا۔ اصطلح: بمعنی تَصالَحَ و نیز ۔ على: پر رضامند ہونا، کو قبول کرنا، اختیار کرنا۔ اِستَصلَحَ هٗ: کو اچھا، مناسب، موزوں، فٹ، کارآمد، قابل عمل یا پائیدار سمجھنا۔ — هٗ: زمین کو قابل کاشت بنانا، زمین پر کاشت کرنا۔ صُلح: امن، صلح، مصالحت، تصفیہ، ترتیب، دوستی، سمجھوتہ، صلح کرانا، جھگڑا چکانا، امن کا فیصلہ۔ لَجنةٌ صُلحِيّةٌ: ثالثی کمیٹی۔ صلاحية: مناسبت، موزونیت، اہلیت، استعداد، لیاقت، افادیت، قابل عمل ہونا خوبی، کارآمد ہونا، صحیح یا کام کی حالت (مشین وغیرہ کی) قابلیت، قانونی طور پر جائز ہونا، معقول ہونا۔ موزنیت، مطابقت جمع صَلاحِيّات: کامل یا انتدابی اقتدار، مختارنامہ یا صلاحية تامة: (اس معنی میں) جهات ذات الصلاحية: اہل یا مجاز ارباب اختیار۔ مُطلَق الصلاحية: plenipotentiary (ڈپلومیٹ) مدار المہام: اَصلَح: بہتر زیادہ مناسب، زیادہ صحیح، زیادہ نیک، زیادہ موزوں، زیادہ شان شایاں۔ مَصلَحَة جمع مَصالِح: معاملہ، قضیہ کام بات ضرورت۔ ہنگامی صورت حال، ہر وہ بات جو سودمند، مفید، یا تقویت پہنچانے والی ہو۔ فائدہ، نفع، منفعت، بہتری، مفاد، دلچسپی، خیر، بہبود، بہبودی، حاکم، ذی اقتدار، محکمہ، حکومتی ایجنسی، انتظامیہ۔ مصلحة الاثار المصرية: مصری آثار قدیمہ کی انتظامیہ۔ مصالح الامة: بہبود عوام۔ مصلحة البريد: محکمہ ڈاک۔ مصلحة الحدود: مزروعہ علاقہ سے باہر کے علاقوں کی انتظامی ایجنسی۔ المصالح الحكومية: حکومتی ایجنسیاں۔ مصلحة الصحة: محکمہ صحت۔ المصلحة العامة: عوامی بہبود۔ في مصلحة فلان: فلان کے مفاد میں۔ في المصلحة و المَفسَدَة: اچھے اور برے وقتوں میں، بہتر اور بدتر کے لئے۔ لمصلحة فلان: کے حق میں، کے مفاد میں، کی منفعت کے لئے، یا کی خاطر، کے مفاد میں۔ خدم مصالح فلان: کے مفاد کے لئے کام کرنا، کے مفادات کی خدمت کرنا۔ معهد اصلاحي: اصلاحی قیدخانہ۔ السلف الصالح: قابل احترام آباؤ اجداد۔ صالحُ السَير: قابل گزر (سڑک) صالح للعمل: کام کے لئے موزوں، استعمال کے لئے تیار، کام کے لائق، قابل عمل۔ صالح لِ: کے لئے قابل قبول، پر منطبق۔ الصالح العام: بہبود عوام۔ في صالح: کے حق میں، کے مفاد میں۔ لِصالح: بھی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

معنی۔کان من صالحِهٖ: یہ اس کے مفاد میں تھا۔
صوالح شخصية: ذاتی مفادات۔الصالحات: اچھے اعمال، نیک اعمال۔
صلخ: اصَلِخَ۔صَلَخًا سمعُهٗ: بہرہ ہونا۔تَصَالَخَ الرجُلُ: بہرہ بننا۔الأَصْلَخ م صَلْخاء جمع صُلْخ بہرہ۔الصَّلَخ: (مص) بہرا پن۔
۲۔اِصْلَخَّ: لیٹنا۔
۳۔الصالخ: خارش۔کہتے ہیں جَرَبٌ صالخٌ و سالخٌ (ح) کالا سانپ۔الأَصْلَخ م صَلْخاء جمع صُلْخ من الجمال: خارشی اونٹ۔الصَّلَخ: خارش۔صَلُوخ: مہلک مصیبت۔
۴۔اصلَخَدَّ الرجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔الصَّلَخْد و الصِلَّخْد و الصِلْخَد و الصلّخاد و الصُلاخِد و الصَّلَخْدَى جمع صَلاخِد: قوی، ذہین دلیر۔
۵۔الصلخدم من الابل: طاقت ور اونٹ۔
صلد: اصلَدَ۔صُلُودا الزندُ: چقماق کا بغیر آگ نکالے ہوئے آواز دینا۔السائلَ: سائل کو کچھ نہ دینا۔
صَلُدَ۔صَلادَةً: کنجوس ہونا۔صَلَّد تَصْلِيداً: کنجوسی کرنا۔أَصْلَدَ الزندُ: چقماق کا بغیر آگ نکالے آواز دینا۔۔۔ الرجلُ: کی چقماق کا آگ نہ دینا۔۔ الزندَ: چقماق کو بغیر آگ نکالے آواز دینے والا کر دینا۔فرسٌ صَلُدٌ: وہ گھوڑا جس کو پسینہ نہ آئے (یہ گھوڑے کی بری صفت ہے) رجُلٌ صَلُدٌ: کنجوس مرد۔الصَّالد (فا): آگ نہ دینے والا چقماق۔الصالدة جمع صَوالد: صالد کا مونث۔الأَصْلَد م صَلْداء جمع صُلْد: کنجوس۔عودٌ صَلاَّدٌ: لکڑی جس سے آگ نہ جلے۔الصَلُود: آگ نہ دینے والا چقماق۔بہت ہی کنجوس۔قِدرٌ صَلُودٌ: دیر سے ابلنے والی ہانڈی۔المرأةٌ صَلُودٌ: بے برکت عورت۔فرسٌ صَلُودٌ: گھوڑا جسے دیر سے پسینہ آئے۔عود مِصلاد: لکڑی جس سے آگ نہ جلے۔ناقة مِصلاد: بچہ والی بے دودھ کی اونٹنی۔
۲۔صَلَدَ۔صُلُودًا تِ الارضُ: زمین کا سخت ہونا۔۔۔ صُلعَتُهٗ: گنج کا چمکنا۔صَلُدَتِ الارضُ: زمین کا سخت ہونا۔الصَّلْد جمع أَصلاد: سخت چکنا، بنجر کہتے ہیں۔ارضٌ صَلْدٌ و مکانٌ صَلْدٌ: زمین اور جگہ جہاں کچھ نہ اگے۔جبینٌ صَلْدٌ: سخت پیشانی۔راسٌ صَلْدٌ: وہ سر جس پر بال نہ اگیں۔الصَلُود: سخت، خشک۔الصَلُوْدَد: سخت، چکنا۔الصِلْداء و الصِلْدَاءَة: سخت ناہموار زمین۔
۳۔صَلَدَ۔صَلَدَاتِ الدابةُ: جانور کا دوڑتے وقت پاؤں زمین پر مارنا، کھڑا ہونا۔۔ بیدیه: دونوں ہاتھ سے تالی بجانا۔الصالِدة جمع صَوالِد: پیٹنے میں آواز نکالنے والا دانت۔
۴۔صَلَدَ۔صَلْداً الرجُلُ فی الجبلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔
۵۔الصَلُود و الصَلِيد: اکیلا۔
۶۔الصَلْدَح: چوڑا پتھر۔الصَلَوْدَح: بہت سخت۔
۷۔الصِلْدِم جمع صَلادِم: سخت، سخت سموں والا (ح) شیر۔
صلد: صَلَدَ۔صلادة و صلودة: سخت مضبوط یا ٹھوس ہونا یا ہو جانا (زمین وغیرہ کا) أَصْلَد: یہی معنی۔صَلْد جمع اصلاد: سخت، مضبوط، ٹھوس، خشک، بنجر، بے آب و گیاہ (زمین) سخت، بے لوچ، مردہ، بے جان، بے کیف، بے حس و حرکت، جامد۔صُلُودَة: سختی، مضبوطی، ٹھوس پن (زمین وغیرہ کا)
صلر: الصِلَّور: (ح) دریا کی ایک مچھلی۔
صلص: الصَّالُصَة: (ط) ٹماٹروں، لیموں یا مصالحوں کے رس سے بنایا ہوا شیرہ۔
صَلْصَة جمع صلصات و صلص: چٹنی (اٹلی کی زبان کا لفظ)
صلط: ا۔الصَّلَطة او الصَّلاَطَة (ط): سرکہ یا ترشہ سے تر سبزیوں نیز نمک، لہسن تیل اور رائی سے تیار کردہ خوراک۔ (اٹلی کی زبان کا لفظ)
۲۔اصْلَنْطَحَ تِ البطحاءُ: ہموار زمین کا کشادہ ہونا۔الصُلاطِح و المُصْلَنْطِح: چوڑا، وسیع۔
صلع: اصَلِعَ۔صَلَعاً: کے سر کے اگلے حصہ کے بالوں کا گر جانا۔صفت ہے أَصْلَع جمع صُلْع و صُلْعان کہتے ہیں صَلِعت الشجرةُ: درخت کی شاخوں کے سرے جھڑ گئے۔صَلَّع الشيءَ: کو اچھی طرح یا خوب ظاہر کرنا (عام زبان میں) صفت مفعولی مُصَلَّع (عام زبان میں)۔۔ وانصَلَعَ تِ الشمسُ: سورج کا بادلوں کی اوٹ سے نکل کر چمکنا۔۔ ت الحيّةُ: سانپ کا صاف ستھرا مٹی کے بغیر نکلنا۔تَصَلَّعَ تِ الشمسُ: سورج کا بادلوں کی اوٹ سے نکل کر چمکنا۔۔۔ ت السماءُ: بادلوں سے ابر کا ہٹ جانا، چھٹ جانا۔الحيّةُ: سانپ کا صاف ستھرا اور مٹی میں آلودہ ہوئے بغیر نکلنا۔الصَّلَع (مص): سر کے اگلے حصہ سے بالوں کا غائب ہونا۔الصُلَعَة و الصَلَعَة: سر کا گنجا حصہ۔کہتے ہیں۔صَكَّهٗ علی صُلَعَتِه: اس نے اس کے سر کے گنجے حصہ پر مارا۔الصَلْعاء جمع صُلْع: الاصلع کا مونث۔خالی بیابان۔رملة صلعاء: زمین کا ریتلا قطعہ جس پر کوئی درخت نہ ہو۔الصُلَّع و الصُلاّع و الصَلِيع چوڑی چٹان۔من الأمكنة: کچھ نہ اگانے والی جگہ۔رأسٌ صَلِيع: سر جس کے اگلے حصہ کے بال گر گئے ہوں۔
۲۔صِلاعُ الشمسِ: سورج کی گرمی۔الصَلْعاءُ: مصیبت۔جمع صُلْع۔
۳۔صَلْعَم: صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف۔
صَلِعَ۔صَلَعًا: گنجا ہونا۔صَلَع: گنجا پن۔صُلْعَة و صَلْعة: گنجی چندیا، گنجا سر۔أَصْلَع م صَلْعاءُ جمع صُلْع و صُلْعان: گنجے سر والا۔
صَلِعَ۔صَلَعًا: گنجا ہونا۔صَلَع: گنجا پن صُلْعَة و صَلْعة: گنجی چندیا، گنجا سر۔أَصْلَع م صَلْعاءُ جمع صُلْع و صُلْعان: گنجا، گنجے سر والا۔
صلف: اصَلِفَ۔صَلَفًا: ڈینگ مارنا۔صفت صَلِف جمع صَلِفون و صُلَفاء صَلافَى۔۔۔ لصاحبه: اپنے ساتھی کے متعلق ناپسندیدہ باتیں کرنا۔تَصَلَّف: بتکلف ڈینگیں مارنا، چاپلوسی کرنا۔
۲۔صَلِفَ۔صَلَفًا السحابُ: بادل کا بہت گرجنا اور کم برسنا۔ت المرأةُ عند زوجها: عورت کا خاوند کی نظر میں کم قدر ہونا۔صفت صَلِفَة جمع صَلِفات و صَلائف: اس سے مثل ہے من يبغ فى الدين يَصْلَف: جو شخص لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دین سے تمسک نہ رکھے، وہ لوگوں کی ہمدردیاں کھو بیٹھتا ہے۔أَصْلَفَ: بے خیر ہونا۔فلانًا: کو ناپسند کرنا، سے نفرت کرنا۔تَصَلَّفَ القومُ: سخت زمین میں جا پڑنا۔الصَلِف: بے مزہ کھانا۔اناءٌ صَلِف: کم پانی پینے والا بھاری برتن۔سحابٌ صَلِفٌ: بہت گرجنے، کم برسنے والا بادل۔ارضٌ صَلِفةٌ: کچھ نہ اگانے والی زمین، بنجر زمین۔الأَصْلَف جمع أَصالِف: سخت بنجر زمین۔الصلفاء و الصِلْفاء و الصَلْفاء و الصِلْفاءَة جمع الصَّلافَى: سخت بنجر زمین۔طعامٌ صَلِيف: بے مزہ کھانا۔المُصْلِف (فا): بیوی کی ناقدری کرنے والا۔
۳۔أَصْلَفَ: مشکل سے سانس لینا۔الصَلِف: بھاری برتن۔
۴۔الصَّلَف واحد صَلَفَة: کھجور کے درخت کے گودے کے مخفی حصے۔الصَّلِيف: گردن کا پہلو۔کہتے ہیں أخَذَهٗ بصليفه: اس نے وہ سب لے لیا۔
۵۔صَلْفَعَ: محتاج و مفلس ہونا۔۔۔ رأسَهٗ: کا سر مونڈنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

صلف: صَلِفَ ـ صَلَفًا و تَصَلَّفَ: ڈینگ مارنا، بڑھانکنا، شیخی بگھارنا، زبان درازی کرنا، اینٹھ کر چلنا، رعب جمانا۔ صَلَف: شیخی، لاف زنی، زبان درازی، ڈینگ، بڑ، گمان، تکبر، خود پسندی، غرور، اکڑ، اکڑفوں، ہیکڑی، نری لفاظی محض عبارت آرائی، خود بینی۔ صَلِف جمع صُلَفاء: شیخی باز، لاف زن، ڈینگ مارنے والا، شان وشوکت دکھانے کا شوقین، زبان دراز، اینٹھ کر چلنے والا، شیخی خورہ۔ تصلف بمعنی صَلَف۔ متصلف بمعنی صَلِف۔

صلق: ا۔صَلَقَ ـ صَلْقًا الرجُلُ: مصیبت میں چلانا۔ ـ صَلْقًا نابُهُ: دانت پیسنا۔ أَصْلَقَ الرجُلُ: مصیبت میں چلانا۔ ـ انیاب: دانت کا آواز دینا۔ تصلّق المریض: درد سے لوٹ پوٹ ہونا۔ ـت المرأة: عورت کا دردزہ میں مبتلا ہونا۔ اصْطَلَقَ البعيرُ بنابه: اونٹ کا دانت پیسنا۔ الصَّلْق (مص) زور کی آواز۔ المِصْلَق و المِصْلاق من الخطباء جمع مَصَالِق و مَصَالِيق: پرجوش مقرر، خوش بیان مقرر۔

۲۔صَلَقَ ـ صَلْقًا هُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ـته الشمسُ: سورج کا کسی کو گرمی سے تکلیف پہنچانا۔

۳۔الصُّلاقة: ایک جگہ پر زیادہ مدت ٹھہرا ہوا پانی۔ الصَّلَق جمع أَصْلاق جمع الجمع أَصالِيق: ہموار زمین۔ الصَّلِيق: چکنا۔ الصَّلِيقة جمع صَلائِق: چپاتی، پتلی روٹی، گوشت کا بھنا ہوا ٹکڑا۔ المَصالِيق: بڑے بڑے پتھر، ہلکے پھلکے اونٹ۔

۴۔صَلْقَعَ: محتاج ومفلس ہونا۔ ـ رأسَهُ: کا سر مونڈنا۔ الصَّلْقَع: خالی کہتے ہیں: مكانٌ صَلْقَعٌ بَلْقَعٌ و صَلَنْقَعٌ بَلَنْقَعٌ: یعنی خالی جگہ۔

۵۔صَلْقَعَ صوتَه: سخت آواز نکالنا۔ الصَّلَقْلَع: سخت تیز۔

صلم: ا۔صَلَمَ ـ صَلْمًا و صَلَّمَ الشيءَ: چیز کو جڑ سے کاٹنا۔ ـهُ: (کے) کان اور ناک جڑ سے کاٹنا۔ اصْطَلَمَهُ: کو جڑ سے اکھیڑنا کہتے ہیں۔ اصْطَلَمَهُمُ الدهرُ: زمانہ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا یعنی ان کا خاتمہ کر دیا۔ رجلٌ أَصْلَمُ م صَلْماء جمع صُلْم الأذنين: وہ شخص جس کے کان ایسے کٹے ہوں کہ گویا پیدائشی ایسے ہیں۔ الصَّيْلَم: تلوار، مصیبت، سخت کام۔ وقعة صَيْلَمة: جڑ سے اکھیڑ دینے والی جنگ۔ المُصَلَّم الأذنين: جس کے کان پیدائشی طور پر کٹے ہوں۔

۲۔الصَّلْم و الصَّلَمة: (جیسے خَدَم و کَفَر) واحد صَالِم: مضبوط اور بہادر لوگ۔ الصُّلامَة و الصَّلامَة و الصِّلامَة: جمع صُلامات و صَلامات و صِلامات: لوگوں کی ایک جماعت، عمر، سخاوت اور بہادری میں برابر لوگ۔ الصَّيْلَم: ایک وقت کا کھانا۔

۳۔صَلْمَعَ: محتاج ومفلس ہونا۔ ـ الرأسَ: سر مونڈنا۔ ـ الشيءَ: چیز کو جڑ سے اکھیڑنا، کو چکنا کرنا۔ صَلْمَعَةٌ هو صَلْمَعَةٌ قَلْمَعَةٌ: وہ اور اس کا باپ غیر مشہور ہیں۔

صلہ: ا۔اصْلَهَبَّ الشيءُ: دراز ہونا، لمبا ہونا۔ الصَّلْهَب: بڑا گھر۔ ـ والمُصْلَهِبّ: لمبا مرد۔

۲۔الصَّلْهَج: بڑی چٹان (ح) مضبوط اونٹنی۔

۳۔اصْلَهَمَّ: سخت ہونا۔ الصِّلْهام: جری، بہادر (ح) شیر۔

صلا: ا۔صَلا ـ صَلْوًا فلانًا: کو پیٹھ کے درمیان مارنا۔ صَلِيَ تَصْلَى صَلاً و أَصْلَى اصلاءً ـت الناقةُ: جننے کے قریب ہونے کی وجہ سے اونٹنی کے دُبر و دُم کے درمیان کے حصہ کا ڈھیلا ہونا۔ الصَّلا (مص) جمع صَلَوات و أَصْلاء: انسان اور ہر چوپائے کی پیٹھ کا درمیانی حصہ۔

۲۔صَلَّى صَلاةً: دعا کرنا، نماز پڑھنا۔ ـ اللّٰه علیه: اللہ کا کسی کو برکت دینا، کی تعریف کرنا، دعا کرنا کہ اسے خوش نصیبی عطا فرمائے۔ الصَّلاة جمع صَلَوات او الصلوٰة: (واو سے) نماز، دعا، تسبیح ـ من اللّٰه: اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت اور انکی تعریف۔ المُصَلَّى: نماز ادا کرنے کی جگہ، جنازہ گاہ۔

۳۔صَلَّى تَصْلِيَةً الفرسُ: گھوڑ دوڑ میں گھوڑے کا دوسرے نمبر پر آنا۔ صفت مُصَلٍّ

صلی: ا۔صَلَى ـ صَلْيًا اللحمَ: گوشت بھونا۔ مَصْلِيّ: بھنا ہوا گوشت۔ ـ فلانًا النارَ وفيها و عليها: کو آگ میں ڈالنا۔ صَلِيَ ـ صَلًى و صِلِيًّا و صُلِيًّا و صِلِيًّا النارَ وبها: آگ کی گرمی برداشت کرنا، یا آگ میں جلنا۔ ـ الأمرَ و بالأمرِ: معاملہ کی شدت برداشت کرنا۔ صَلَّى العصا على النار او بالنار: لاٹھی کو آگ میں تپا کر نرم کرنا اور سیدھا کرنا، شاعر کے اس قول میں: "فما صَلَّى عَصاكَ كمستديم": یعنی اس نے تمہاری حالت اس طرح ٹھیک نہیں کی جس طرح آپ کسی کام کو تندہی سے سرانجام دیتے ہیں۔ ـ يَدَهُ: ہاتھ تاپنا۔ أَصْلَى يَدَهُ: ہاتھ تاپنا۔ ـهُ النارَ: کو آگ میں ڈالنا۔ تَصَلَّى تَصَلِّيًا النارَ و بالنار: آگ کی گرمی برداشت کرنا، آگ تاپنا۔ ـ عصاه على النار: لاٹھی کو آگ پر تپانا۔ اِصْطَلَى اصْطِلاءً بالنار: آگ تاپنا کہتے ہیں۔ فلانٌ لا يُصْطَلى بنارِه: [illegible] مقابلہ نہیں ہوسکتا۔ الصِّلاء و الصَّلَى: آگ یا بڑے پیمانہ کی آگ، ایندھن۔

۲۔صَلَى ـ صَلْيًا الرجُلَ: خوشامد و درآمد سے کسی کو کسی برائی کرنے پر مجبور کرنا، دھوکہ دینا۔ ـ للصيد: شکار کے لئے جال بچھانا۔ ـ لَهُ الشَّرَكَ: کے لئے جال بچھانا (عام زبان میں) ـت الحيّةُ: سانپ کا اپنی گردن اٹھا کر کسی گزرنے والے کی گھات میں رہنا تاکہ اس پر جھپٹا مار سکے (عام زبان میں) صَلِيَ السِّنَّوْرُ الفأرةَ: بلی کا چوہے کی گھات میں بیٹھنا (سریانی عام زبان میں) المِصْلاة و المِصْلَى جمع مَصالٍ: شکار کرنے کا جال، پھندا کہتے ہیں: ان للشيطان فخاخًا و مَصَالِيَ: شیطان کے بہت سے جال اور پھندے ہیں۔

۳۔الصَّلايَة و الصَّلاءَة جمع صُلِيٌّ و صِلِيٌّ: پیشانی، خوشبو کوٹنے کا بٹا، سِل (جس پر چیزیں کوٹی جاتی ہیں)۔

صَلّى: نماز ادا کرنا، دعا کرنا، عبادت کرنا۔ صَلّى بالناس: لوگوں کو نماز پڑھانا، نماز میں امامت کرنا۔ صَلَّى على: کے حق میں دعائے خیر کرنا، (اللہ تعالیٰ کا) کسی کو خوش رکھنا۔ صلوٰة و صلاة: نماز، سفارش، شفاعت، سفارش کی نماز، برکت، دعائے خیر، اشیر باد، خدا کی رحمت، خدا کا لطف و کرم۔ صلاةُ التراويح: ماہ رمضان کے دوران راتوں کو ادا کی جانے والی نماز۔ صلاة الستار: گرجے میں شام کی نماز۔ مُصَلٍّ: نمازی، عبادت کرنے والا۔ صَلون: سیلون، بیٹھک، دیوان خانہ، کمرۂ استقبال۔ صَلَى ـ صَلْيًا ہ: کو بھوننا۔ صَلِيَ ـ صَلًى و صُلِيًّا و صِلاءً ہ / ب: میں جلنا، کے شعلہ یا کی لپیٹ میں ڈالا جانا۔ صَلَّى ہ ب: کو سے یا پر گرم کرنا، تپانا۔ أَصْلى ہ ہ: مندرجہ بالا معنی۔ اَصْلَى ہ ہ: (خصوصاً النار) کو کسی چیز یا خصوصاً آگ میں جلانا۔ اصلاه نارا من الغيرة: کو حسد، بدگمانی، غیرت یا محبت کے سخت ٹیسوں سے گزارنا۔ اصلاه نارًا: کو آگ لگانا، پر فائر کرنا (عسکری اصطلاح میں) تَصَلّى ب: اپنے آپ کو کسی چیز پر یا کے ذریعہ یا (بالنار) آگ پر گرم کرنا، یا آگ تاپنا۔ اصْطَلى: بمعنی تَصَلّى۔ لا يُصْطَلَى بنارِه: وہ ناقابل تسخیر ہے، اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ مُصْطَلًى: چولہا، انگیٹھی۔

صمّ: ا۔صَمَّ ـ صَمًّا القارورةَ: شیشی کو بند کرنا۔ ـ الجُرحَ: زخم پر لیپ لگا کر باندھنا، زخم کی مرہم پٹی کرنا۔ ـ صَمَمًا و صَمًّا: کا کان بند ہونا، اونچا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سننا، بہرا ہونا یا بالکل نہ سننا۔ صفت اَصَمّ م صَمَّاء جمع صُمّ و صُمَّان کہتے ہیں۔ صَمَّتِ الأُذُن: کان بند ہوگیا۔ صُمَّ صداہ: (یعنی اس کی آواز بند ہوگئی) مراد وہ ہلاک ہوگیا، مرگیا۔ صَمَّمَ ہٗ: کو بہرا کرنا۔ أَصَمَّ: کا کان بند ہونا۔ ـ ہٗ: کو بہرا کرنا یا بہرا پانا۔ -- القارورۃَ: شیشی بند کرنا۔ ـ دعاءَہٗ: ایسے لوگ پانا جو بہرے ہوں، جو نہ تو اسکی سرزنش سنتے ہوں نہ جواب ہی دیتے ہوں۔ ـ اللّٰہُ صدی فلان: اللہ اسے ہلاک کرے۔ تَصَامّ عن الحدیث: بہرا بننا۔ الصِمّ: سخت مصیبت۔ الصِمَّۃ جمع صِمَم: صم کا اسم نوع۔ شیشی وغیرہ کا ڈاٹ۔ الصَمَم (مص) بہرا پن۔ صَمَامِ کقَطَامِ: سخت مصیبت کا اسم علم ہے کہتے ہیں۔ صَمِّي صَمَامِ: یعنی اے مصیبت اور زیادہ ہوجا نیز کہتے ہیں۔ صَمَامِ صَمَامِ: یعنی خاموش رہ کر بہرے بن جاؤ۔ الصِمَام جمع أَصِمَّۃ والصِمَامَۃ: شیشی کا ڈاٹ۔ الأَصَمّ ٹھوس، مضبوط کہتے ہیں۔ حجرٌ أَصَمّ و صحرۃٌ صَمّاء: ٹھوس، پتھر، چٹان۔ رمحٌ أصمّ: مضبوط نیزہ۔ رجلٌ اصمّ: وہ مرد جو اپنی خواہش کا بندہ ہو اور اس سے کسی بہتری کی امید نہ ہو۔ دھرٌ اَصَم: بہرا زمانہ جو کوئی شکایت نہ سنتا ہو۔ الشھر الأھم: ماہ رجب (جس میں جنگ کی حرکت اور اسلحہ کی جھنکار سنائی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کسی مدد کے لئے پکارنے والی کی کوئی آواز) (مُوَلَّدِین: (زمانہ حال کے مصنفین) کے نزدیک) دسمبر کا مہینہ کیونکہ بارشوں کی کثرت اور سردی کی وجہ سے اس میں لوگ پرسکون رہتے ہیں۔ الصَمَّاء جمع صُمّ: الاَصَمّ کا مونث، سخت زمین، بڑی مصیبت۔ الصَمَّان والصَمَّانَۃ: ہر سخت پتھریلی زمین۔

۲- صَمَّ ۔صَمًّا عزیمتَہٗ: پکا ارادہ کرنا۔ صَمَّمَ علی الامرِ وفیہ: اپنی رائے پر چلنا اور منع کرنے والے کی بات پر کان نہ دھرتا گویا بہرا ہو۔ ـ السیفُ: تلوار کا ہڈی سے پار ہو جانا اور اسے کاٹ ڈالنا۔ الصِمّ (ح) شیر۔ الصِمَّۃ جمع صِمَم: بہادر (ح) شیر۔ رجُلٌ صَمَمٌ: پکے ارادہ والا مرد۔ المُصَمِّم (فا): ثابت قدم، کام میں نہ رکنے والا۔ السیف المُصَمِّم: قاطع تلوار۔ التصمیم جمع تَصَامِیم: پلان، ڈیزائن، سکیچ، پلاننگ، منصوبہ بندی، ڈیزائننگ، ڈیزائن، کسی منصوبہ کا پختہ تعاقب۔

۳- صَمَّ ۔صَمًّا الرجُلَ بحجر: کو پتھر مارنا۔

۴- صَمَّمَ الشیءَ: کسی چیز کو دانتوں سے کاٹنا۔ الصِمَّۃ (ح): نر سانپ۔

۵- صَمَّمَ ہٗ الحدیثَ: کو کلام یاد کرانا۔

۶- الصِمَّۃ جمع صِمَم (ح) مادہ۔ سیھی۔ الصمیم: عضو کو قائم رکھنے والی ہڈی۔ ــ من کل شيءٍ: ہر چیز کا خالص حصہ (واحد اور جمع دونوں کے لئے مستعمل ہے) آپ کہتے ہیں: رجُلٌ صمیم و رجال صَمِیم م صَمِیمَۃ: کہتے ہیں۔ ھو من صمیمِ القوم: یعنی وہ قوم کا اصل اور خالص ہے۔ من البرد او الحرّ: سخت سردی یا گرمی کہتے ہیں۔ ذھب فی صمیم الحرّ: وہ سخت گرمی میں چلا گیا۔

۷- صَمْصَمَ صَمْصَمَۃً فی الامر او السیر: ثابت قدمی سے کام جاری رکھنا، یا چلتے رہنا۔ الصَمْصَام والصَمْصَامَۃُ: نہ مڑنے والی تلوار۔ الصِمْصِم والصُمَاصِم والصُمَاصِمۃ من الخیل: چلنے میں ثابت قدم گھوڑا۔

۸- صَمْصَمَت القَنفذۃُ: سیہی کا آواز نکالنا۔

۹- صَمْصَمَ (فی اصطلاح العامۃ): کنجوس ہونا، پس انداز کرنا کہتے ہیں۔ رجُلٌ یُصَمْصِمُ مالَہ و رجُلٌ صِمْصِیم: کنجوس جو مال بچا کر رکھے۔

۱۰- الصِمْصِم: چھوٹا، موٹا۔ الصَمْصَمَۃ والصِمْصَمۃ جمع صِمْصِم و صَمَاصِم: قوم کا وسط لوگوں کی جماعت

۞ صَمَّ ۔صَمًّا و صَمَمًا: بہرا ہونا یا ہوجانا۔ صَمَّ ۔صَمًّا ہ: کسی چیز، بوتل وغیرہ کو بند کرنا، ڈاٹ لگانا۔ صَمَّمَ ہٗ: کو بہرا کر دینا۔ علی: کا پختہ ارادہ کرنا، کا فیصلہ کرنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ ــــ ہ: (کسی چیز) کا خاکہ یا نقشہ یا ڈیزائن تیار کرنا کا منصوبہ بنانا، پروگرام بنانا، کی منصوبہ سازی کرنا۔ -- ہ ل بہ کے لئے کسی چیز کا خاکہ بنانا، تیار کرنا، یا نقشہ بنانا یا تیار کرنا، ڈیزائن بنانا یا تیار کرنا۔ أَصَمَّ بہرا ہونا یا ہو جانا۔ ہٗ: کو بہرا کر دینا۔ ہ ہ/ عن: کو سے بہرا بنا دینا۔ تَصَامَّ عن: کو نہ سننا، پر کان نہ دھرنا۔ صِمَّۃ: پلگ (plug)، کارک (Cork) سٹاپر (Stoppr). صَمَم: بہرا پن۔ کان فی صمم عن: کے متعلق پنبہ بگوش ہونا۔ صِمَام جمع صِمَامات بمعنی صِمَّۃ (نیز) والو۔ (ریڈیو) ٹیوب۔ صِمامُ الأَمَان (الأَمن): سیفٹی والو۔ صِمامُ التقویم ریکٹی فائر ٹیوب۔ رفع الصِمَام عن: کو اپنی رائے پر چلنے دینا، کو بے لگام کرنا (جیسے احساس کو)۔ صمیم: بالکل اندرونی گہرا، عمیق، دلی قلبی، دل، گودا، مغز، جوہر، اصل، روح، ست، لب لباب، سب سے اہم بات، سچا، اصلی، حقیقی، مخلص۔ من صمیم القلب: دل کی گہرائی سے، پورے اخلاص سے، انتہائی خلوص کے ساتھ۔ فی صمیم: کے درمیان میں، میں، کے دوران۔ ضَرَبہ فی الصمیم: کو از حد متاثر کرنا، کے دل پر گہرا اثر کرنا۔ صَمِیمی: دلی، قلبی، پرتپاک، پرجوش، گرمجوشانہ۔ اصم اصلخ: بالکل بہرا۔ جَذر اصم: جذر اصم، (ریاضی) آلۃ صماء: رضاکارانہ آلہ کار۔ تصمیم علی: کا پختہ عزم، ارادہ، فیصلہ، باعزم عمل، کسی منصوبہ کی پختہ جستجو، منصوبہ بندی، منصوبہ بنانا، ڈیزائن، ڈیزائننگ (جمع تصمیمات و تصامیم) پلان، ڈیزائن، سکیچ۔ من تصمیم فلان: فلاں کا ڈیزائن کردہ۔ مُصَمِّم علی: کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کرنے والا۔ مُصَمِّم الازیاء. فیشن کا خالق، ڈیزائنر (ملبوسات کا)

صمأ: صَمَأَ ۔صَمْأً: طلوع کرنا۔ ـ فلانًا علی الأَمر: کو پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔

صمت ۱- صَمَتَ ۔صَمْتًا وصُمُوتًا و صُمَاتًا: خاموش رہنا۔ صَمَّتَ: خاموش رہنا۔ ــــ ہٗ: کو خاموش کرنا۔ ت المراۃُ ولدھا: عورت کا اپنے بچہ کو کچھ کھلا کر بہلانا۔ أَصْمَتَ: خاموش رہنا۔ ہٗ: کو خاموش کرنا۔ ـ العلیلُ: بیمار کی زبان کا بند ہونا۔ الصُمات: (مص) خاموشی۔ کہتے ہیں: رماہ بِصُمَاتِہ و سُکاتِہ: اس نے اس کو چپ کرا دیا۔ الصِمْتَۃ والصُمْتَۃ: وہ کھانا وغیرہ جس سے بچہ چپ کرایا جائے اور بہلایا جائے۔ الصامِت من المال: سونا چاندی۔ (المال الناطق: حیوان) کہتے ہیں۔ مالہ ناطِق ولا صامِت یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ الصِمِّیت والصُمُوت: کم گو، بہت چپ رہنے والا۔ ضَرْبَۃٌ صَمُوت اندونی ضرب، مار۔ جاریۃٌ صَمُوتُ الخلخال: موٹی ٹانگوں والی لڑکی جس کی پازیب کی آواز سنائی نہ دے۔ المُصوت (فا) کہتے ہیں: انہ یشکو الی غیر مُصْمِت: وہ اس سے شکایت کرتا ہے جو اس کی شکایت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔

۲- الصُمات: پیاس کی سرعت، قصد، ارادہ کہتے ہیں: ھو علی صُمات الأَمر او بصُمَاتِہ: وہ کام کرنے کو تیار ہے۔ بات من القوم علی صُمَات: وہ لوگوں سے قریب ہوا۔ الصمُوت: بھاری زرہ، شہد سے بھرا ہوا چھتہ۔ الصامِت (فا): گاڑھا دودھ۔ المُصْمَت: (مفع) ٹھوس۔ بابٌ مُصْمَتٌ: بند دروازہ جس کے بند ہونے کی جگہ کا پتہ نہ ہو۔ حائطٌ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مُصْمَتٌ: وہ دیوار جس میں کوئی دراڑ نہ ہو۔ فرسٌ مُصْمَتٌ: یک رنگا گھوڑا۔ اناءٌ مُصْمَتٌ: وہ برتن جس پر چاندی کی قلعی نہ ہو۔ أَلْفٌ مُصَمَت و مُصَمَّت: پورا ایک ہزار۔

○ صَمَتَ ـُ صَمْتًا و صمُوتًا: خاموش ہونا، کم گویا کم سخن ہونا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، خاموش ہونا یا ہو جانا، معاملہ کا دب جانا۔ صَمَّتَ ہُ و أَصْمَتَ ہُ: کو خاموش کرنا۔ صَمْت: خاموشی۔ فی صمت: خاموشی سے، چپ چاپ۔ صَمُوت: خاموشی صامت کی جمع خاموش رہنے والے۔ صُمُوت: خاموش، کم گو، کم سخن۔ صَامِت جمع صُمُوت: خاموش۔ سینما صامتة: خاموش فلم (Silent film) مُصْمَت: یکساں (رنگ) سادہ، بے درو دریچہ (دیوار) بناوٹ میں یکساں، ایک ہی چیز سے بنا ہوا، بڑا ٹھوس، جو کھوکھلا نہ ہو، کسا ہوا۔

صمح: ۱۔ صَمَحَ ـَ صَمْحاً ہُ الحرُّ: گرمی کا کے دماغ کو پگھلا دینا۔ الصُماح: پگھلی ہوئی چربی جو پاؤں کی پھٹن پر رکھی جائے۔ داغ دینا۔ یومٌ صَامِحٌ و صَموحٌ: سخت گرمی کا دن۔

۲۔ صَمَحَ ـَ صَمْحًا ہُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ الأَصْمَح: شجاعت کی وجہ سے بہادروں کے سروں پر ضرب لگانے والا۔ حافِر صَموُحٌ: سم، کھر جو سخت آواز دے۔

۳۔ صَمَحَ ـَ صَمْحًا فلانًا: سے سختی سے سوال کرنا۔ الصِمْحَا و الصِمْحَاءَة: سخت زمین۔

۴۔ الصُمَاح: بدبودار پسینہ۔

صمخ: ۱۔ صَمَخَ ـُ صَمْخًا ہُ: کے کان کے سوراخ پر مارنا۔ انفَهُ: کا ناک توڑنا۔ الصِمْخ ضرب جس سے چہرے پر نشان پڑ جائے۔ الصِمَاخ جمع صُمُخ و أَصْمِخة و الأَصْمُوخ: کان کا سوراخ کہتے ہیں: ضرب الله علی صِماخِه اللہ اس کو سلائے۔ كُلُّ أُذن وَلُودٌ و كلُّ صِماخ بيُوضٌ: یعنی ہر لمبے کان والا انسان کی طرح جنتا ہے اور ہر چھوٹے کان والا پرندوں کی طرح انڈے دیتا ہے۔

۲۔ الصِمْخ: ایک منجمد چیز جو بکری کے تھنوں میں بچہ دینے کے بعد ہوتی ہے اور اس کے نکلنے کے بعد دودھ صاف ہو جاتا ہے۔ عام لوگ اسے شمندور کے نام سے جانتے ہیں۔ الصُمَاخ جمع صُمُخ: کم پانی والا کنواں۔

۳۔ إِصْمَخَدَّ: غصہ سے پھولنا۔

صمد: ۱۔ صَمَدَ ـُ صَمْداً و صَمَّدَ فلانًا وله واليه: کا قصد کرنا کہتے ہیں۔ صَمَدَ صَمْدَ هذا الامرَ: اس نے اس کام پر اعتماد کیا۔ تَصَمَّدَله بالعصاء: کو لاٹھی سے مارنا۔ الصَمَد: سردار جس کی طرف مہمات میں رجوع کیا جائے، اور اس کے بغیر کام پورے نہ ہوں، ہمیشہ رہنے والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام۔ الصَمْدَة: صَمَدَ کا اسم مرۃ۔ الصَامد: چلی جانے والی چیز کا باقی حصہ (عام زبان میں) المُصَمَّد و المَصْمُود: جس کا قصد کیا جائے۔

۲۔ صَمَدَ ـِ صَمْدًا ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ت الشمسُ وجهَهُ: آفتاب کا چہرہ کو جھلس دینا۔ صَمَّدَہُ بالعصاء: کو لاٹھی سے مارنا۔ صَامَدَ صِمَاداً و مُصَامَدَةً ہُ: سے لڑنا تلوار بازی کرنا۔

۳۔ صَمَدَ ـَ صَمْداً القارورةَ: شیشی پر ڈاٹ لگانا۔ صَمَّد الرجلُ راسَهُ: سر پر رومال باندھنا۔ الصِمَاد: شیشی کا ڈاٹ۔ و الصِمادة: پگڑی کے علاوہ سر پر لپیٹنے کا کپڑا یا رومال۔ الصَمْدة (فی اصطلاح المسیحین): وہ رومال جو پادری مقدس قربانی کے برتنوں کے نیچے رکھتے ہیں۔

۴۔ صَمَدَ ـُ صَمْداً تِ الماشطةُ العروسَ (فی اصطلاح العامة): خادمہ کا دلہن کو اونچی چوکی پر بٹھانا، اسی طرح صَمَد الكاهن الصورة و القربان: پادری کا تصویر اور قربانی کو اونچی جگہ رکھنا (سریانی) أُصْمِدَ اليه الأمرَ: معاملہ کے سپرد کرنا۔ الصَمْد (مص) جمع أَصْماد و صِمَاد: اونچی جگہ۔ الصَمَد: بلند۔ الصَمْدة و الصُمْدة: بلند مضبوط گڑی ہوئی چٹان۔

۵۔ صَمَّدَ الدراهمَ: تھوڑا تھوڑا کر کے درہم جمع کرنا اور محفوظ کر لینا (عام زبان میں) الصامد: چیزیں جمع کرنے والا (عام زبان میں)

۶۔ الصَمَدُ: ٹھوس، لڑائی میں بھوک پیاس برداشت کرنے والا۔

۷۔ صَمْدَحَ اليومُ: دن کا بہت گرم ہونا۔ الصَمیْدَح: گرم دن۔

۸۔ الصُمادِح: بہت سخت چیز، ہر چیز کا خالص حصہ، واضح راستہ (ح) شیر۔ الصُمادِحی: ہر چیز کا خالص حصہ۔ و الصَمیْدَح بہت سخت۔

○ صَمَدَ ـُ صُمُدًا ہ / ھ / ل / الی: کے پاس کی طرف جانا۔ ھ / ل / الی: کی طرف توجہ کرنا، کوتن دہی سے کرنا، ڈاٹ لگانا وغیرہ۔ صَمَّد ہ / ھ: کے پاس جانا۔ ھ: کو بند کرنا، ڈاٹ لگانا (روپیہ) بچانا۔ صَامَدَہ: سے لڑنا، سے ہاتھا پائی کرنا۔ صَمَد: خدا تعالیٰ ابدی، ازلی اور ابدی، دائمی، امث، خدائے لم یزل۔ صَمَدَانی: ابدی، ازلی، لازوال، دائمی۔ صِمَادة: سر پر رکھنے کا رومال وغیرہ۔

صُمُودا فی وجهه اول: کے مقابلہ میں آنا، کا مقابلہ کرنا، مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا

○ صَمْصَم فی: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔

صمر: ۱۔ صَمَرَ ـُ صَمْراً و صُمُورًا الماءُ: پست زمین سے ہموار زمین پر پانی کا آہستہ آہستہ بہنا۔ الصِمْر: آہستہ آہستہ چلنے والے پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔

۲۔ صَمَرَ ـُ صَمْراً و صُموراً: بخیل ہونا۔ صَمَّر و أَصْمَرَ الرجُلُ: بخیل ہونا۔ ــ المتاعَ: سامان جمع کرنا۔ الصَامِر (فا) جمع صامِرون: بخیل۔

۳۔ صَمَرَ ـِ صَمْراً و صَمِر ـَ صَمَراً اللبنُ: دودھ کا ترش ہونا۔ اَصْمَرَ اللبنُ: دودھ کا بہت ترش ہونا۔ الصَمْرة و الصامُورة: ترش دودھ، جس میں مٹھاس نہ ہو۔

۴۔ صَمَّرَ و أَصْمَرَ الرجُلُ: شام کے وقت آنا۔ الصُمَيْر: شام کا وقت۔

۵۔ الصَمْر: تازہ مشک کی خوشبو۔ ــ و الصَمَر: بدبو۔ الصُمر جمع أَصمار: کسی چیز کا کنارہ کہتے ہیں۔ ملأ الكأسَ الی أَصمارها او أَصبارها: یعنی اس نے پیالہ کو اس کے کناروں تک بھر دیا۔ الصَمِر: بدبودار کہتے ہیں۔ یدی من السمك صَمِرة: یعنی میرا ہاتھ مچھلی کی وجہ سے بدبودار ہے۔ الصَمِیر: پتلا خشک آدمی جس سے پسینہ کی بدبو آتی ہو۔

صمع: ۱۔ صَمَعَ ـَ صَمْعًا ہُ بالعصا او السيف: کو لاٹھی یا تلوار سے مارنا۔

۲۔ صَمَعَ ـَ صَمْعًا الظبیُ: ہرنی کا زمین میں چلا جانا۔ صَمِعَ ـَ صَمَعًا: لاپرواہی سے گزر جانا۔ صَمَّعَ علی رأيه: اپنی رائے پر ڈٹا رہنا۔ انْصَمَعَ فی غضبه: اپنے غصہ پر قائم رہنا۔ الأَصْمَع جمع صُمْعان: تیز کاٹنے والی تلوار، قلب ذکی، اوپر چڑھنے والا۔ الأَصْمَعَان: ہشیار دل اور پکی رائے۔ الصَمِع: تیز فہم، بہادر، فولادی دل والا۔

○ صومعة جمع صوامع: راہب کا حجرہ، غلہ کا گودام، منار، منارہ۔

۳۔ صَمِعَ ـَ صَمْعًا فی الكلام: کلام میں غلطی کرنا۔ صَمِعَ ـَ صَمْعًا ت أُذنُهُ: کانوں کا چھوٹے ہونے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے سبب سر سے چمٹا ہوا، چھوٹے اور سر سے چمٹے ہوئے کان کو صَمعاء اور ایسے کان والے کو۔ أصمع کہتے ہیں۔ الأَصمَع م صَمعاء جمع صُمع چھوٹے کان والا، لطیف پر، وہ پودا جس کا پھل ابھی غلاف سے نہ نکلا ہو۔

صمغ: ا۔صَمَغَ الشيءَ: میں گوند ڈالنا، کو گوند لگانا (عام زبان میں) أَصمَغَت الشجرۃ: درخت سے گوند نکلنا۔ الشدقُ: باچھ کا زیادہ تھوک اور جھاگ والی ہونا۔ اِستَصمَغ الشجرۃ: درخت سے گوند نکالنا۔ الصَّمَغ والصَّمغُ: (واحد صَمغَة) و (صَمغَة) جمع صُمُوغ: گوند۔ الصَّمغُ العربی صمغ عربی، ببول یا کیکر کی گوند، عام لوگ اسے صِمغ کہتے ہیں۔ الصِمغان والصِمغتان والصامِغان والصِماغان: باچھیں۔ الصمع و الصِمغَة: ولادت کے بعد تھن کے اندر پائی جانے والی ایک منجمد چیز۔ الصَّمغان: وہ شخص جس کے کان، ناک، منہ، آنکھ سے گوند کے مانند ریزش نکلے۔

۲۔استصمغ فلانٌ: کونا سور نکلنا، کو زخم ہونا۔ الصَّمغة: ناسور۔

○ صَمَّغَ ہ: کو گوند لگانا۔ ہ: کو لئی سے چپکانا، یا جوڑنا۔ أَصمَغَ (درخت کا) گوند نکالنا۔ صمغ جمع صُموغ: گوند، گندا بروزہ، بروزہ۔ صمغُ اللك: چپڑا لاکھ، چپڑا۔ صمغ مرن: ربڑ۔ شجر الصمغ: ربڑ کا درخت۔ صَمغِی: چیپ دار، گوند جیسا چپچپا۔

صمق: ا۔ أَصمَق الباب: دروازہ بند کرنا۔ اللبنُ او الماءُ: دودھ یا پانی کا مزہ بدل جانا، خراب ہونا ۔۔ الرجلُ: مرد کا خبیث ہونا۔ الصَّمقة: خراب دودھ

۲۔صَمقَرَ اللبنُ: دودھ کی کھٹاس کا تیز ہونا ۔۔ ت الشمسُ: سورج کا بہت گرم ہونا۔ صمك: اِصمَاكَّ الرجلُ: غضب ناک ہونا ۔۔ اللبنُ: دودھ کا جم کر پنیر جیسا ہو جانا ۔۔ ت الأرض: زمین کا بارش سے تر ہونا۔ الجرحُ: زخم کا پھولنا۔ الصَّمكُوك والصَّمَكيك: جاہل، برائی کی طرف جلدی کرنے والا، قوی، مضبوط، سخت دل ظالم، لیس دار چیز۔

صمل: ا۔صَمَلَ ۔صَمْلاً و صُمُولاً الشيءُ: سخت ہونا، خشک ہونا۔ أَصمَلَ ہُ الصیام: روزوں کا کسی کو لاغر کر دینا۔ اِصمَألَّ: سخت ہونا ۔۔ النباتُ: نباتات کا گھنا ہونا۔ الصُّمُلّ: مضبوط جسم کا۔ الصامِل والصَّمِیل: خشک، سوکھا ہوا۔

۲۔صمل: صَمْلاً و صُمُولاً الرجلُ عن الطعام کھانے سے رک جانا۔

۳۔صَمَلَ ۔صَمْلاً و صُمُولاً ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

۴۔المُصمَئِلّ: غصہ سے پھولا ہوا۔ المُصمَئِلَّة: مصیبت۔

○ صَمَلَ ۔صَمْلاً: سخت ہونا، باقی اور جاری رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا۔ صَمَل: سختی، لچک نہ ہونا۔ صَمُولة جمع صَوامِل و صامُولة جمع صوامیل: ڈھبری، ریپٹ۔

صمي: ا۔صَمَى ۔صَمَیانًا الرجلُ: پلٹنا۔

۲۔صَمَى ۔صَمَیانًا الرجلُ: کودنا، جلدی کرنا ۔۔ صَمَیًا الصیدُ: شکار کا نظروں کے سامنے مر جانا کہتے ہیں ما صَماكَ علیه: تمہیں کس چیز نے اس پر اکسایا۔ أَصمى اصماءً الرجلُ: جلدی کرنا ۔۔ الصیدَ: شکار کو تیر مار کر قتل کر دینا اور اس کا وہیں ٹھنڈا ہو جانا ۔۔ الفرسُ علی لجامه: گھوڑے کا لگام کو چبانا اور چلنا۔ انصَمى انصِماءً علیه: پر گرنا ۔۔ الطائرُ: پرندہ کا ٹوٹ پڑنا۔ الصَّمَیان: (مص) جمع صِمیان: سچا اور جچا ہوا حملہ کرنے والا بہادر شخص۔ رجلٌ صَمَیانٌ: لوگوں پر جھپٹنے والا اور ایذا دینے والا آدمی۔

۳۔صَمى ۔صَمیاً الامرُ فلانًا: کسی پر آپڑنا۔ أَصمى اِصماءً منیّتَهُ: موت سے دوچار ہونا۔

○ صِملاخ جمع صَمالِخ: کان کا میل۔ أَصماهُ: کو کاری ضرب لگانا ۔۔ ہ/ ہ: کو مہلک ضرب لگانا۔ رَمَى فأَصمى: کو تیر، گولی وغیرہ مار کر موقع پر ہلاک کر دینا۔

صنّ: ا۔أَصَنَّ: گندہ بغل ہونا ۔۔ الماءُ: پانی کا خراب ہونا۔ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ الصِنّ: پتھر پر لگا ہوا پیشاب جو بہت سڑتا ہے۔ الصِنَّة: پیشاب کی بدبو (عام زبان میں) الصِنة: گندہ بغلی، بدبو۔ الصُّنان جمع أَصِنَّة: گندہ بغلی، بدبو۔

۲۔أَصَنَّ: تکبر سے ناک چڑھانا ۔۔ الرجلُ: غصہ سے بھر جانا۔ علی الامر: پر اصرار کرنا۔

۳۔أَصَنَّ الرجلُ: خاموش ہونا۔

۴۔الصَّنّ جمع صِنان: روٹیاں رکھنے کی ڈھکنے دار ٹوکری۔ الصِنّ: سردی کے آخری سات دنوں کی ابتداء۔ الصِنان: بہادر۔ الأَصَنّ: بے پروا بننے والا۔

○ صَنّ: ٹوکری۔ صِنَّة: بغل سے خارج ہونے والی بو۔

صنب: ا۔الصِناب (ط): (یونانی لفظ) ایک قسم کا سالن جو رائی اور تیل سے تیار کیا جاتا ہے ۔۔ والصِنابة: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ الصِنابِیّ: سفیدی مائل بھورے رنگ والا۔

۲۔صَنبَرَ صَنبرۃً ت النخلةُ: درخت خرما کا کم پھل اور پتلے تنے والا ہونا۔ الصَّنبَر: پتلی کمزور چیز۔ الصُّنبُور جمع صَنابیر: کمزور، ذلیل لاوارث آدمی۔ و الصُّنبورة جمع صنابیر: باریک تنے اور کم پھل والا کھجور کا درخت وہ کھجور کا درخت جو کسی دوسرے کھجور کے درخت کی جڑ سے بغیر بوئے پھوٹ نکلا ہو۔

۳۔الصِنَّبر جمع صَنابِر: سرد ہوا، گرم ہوا، سردی کے آخری سات دنوں میں دوسرا دن کہتے ہیں۔ لیلةٌ صِنَّبرٌ و صِنبْرٌ: سخت سردی یا گرمی والی رات۔ صنابر الشتاء: جاڑے کی شدت۔ الصُّنبُور جمع صَنابیر: کمینہ، چھوٹا بچہ، مصیبت، سرد ہوا، گرم ہوا (ضد) حوض میں پانی نکلنے کی نالی۔ الصَّنوبَر: چیڑ کا درخت۔ الصَّنوبَرِی: صنوبر کے پھل کے مشابہ گول لمبا یا مخروطی۔ الصَّنوبَرِیات: (ن) نباتاتی نوع جن میں صنوبر (چیڑ) سرو وغیرہ کے درخت شامل ہیں۔

۴۔صَنبَعَ البخیلُ: سوال کے وقت بخیل کا منقبض ہونا۔

صنت: أَصنَتَ الشيءَ: کو محکم کرنا، مضبوط کرنا۔ الصَّنُوت جمع صَنانِیت: شیشی کا ڈھکنا۔

صنج: ا۔صَنَجَ ۔صُنُوجًا ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ صَنَّجَ تَصنِیجًا به: کو پچھاڑنا۔ عوام کہتے ہیں: صَنَّجَتْ رقبتُهُ: کی گردن کے پٹھے اکڑ گئے۔ صحیح شُنِّجَتْ ہے۔ الصَّنج جمع صُنُوج: (مو) جھانجھ، مجیرا، چنگ۔ الصَّنَّاج و الصَّنَّاجة: جانجھ بجانے والا۔ صَنَّاجَةُ الجیشِ: فوجی طبل۔

۲۔صَنَجَ ۔صُنُوجًا الناسَ: لوگوں میں سے ہر ایک کو اس کی اصل کی طرف موڑنا۔ صَنج کہتے ہیں: ما ادری ایّ صنجٍ ھو: میں نہیں جانتا وہ کس قسم کا آدمی ہے۔

۳۔لیلة قمراء صَنّاجةٌ: روشن، چاندنی رات۔

○ صِنجَة و سِنجة: نگین۔

صند: ا۔الصِندِد جمع صنادید: سردار، بہادر ۔۔ من الریح او البرد: تند ہوا یا سخت سردی کہتے ہیں: یومٌ حامی الصِندِید او الصَّنادِیر: سخت گرم دن۔ من الغیث: موٹی موٹی بوندوں کی بارش۔ الصَّنادید: لشکر کی جماعت۔ مصیبتیں۔

○ صِندِید جمع صنادید: رہنما، مشہور، ممتاز، نمایاں،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بہادر، دلیر۔

٢۔صَنْدَقَ البضاعةَ (ت): سامان صندوق میں رکھنا۔ الصُّنْدُوق جمع صَنَادِیق: صندوق۔الصُّنْدوقة: چھوٹا صندوق۔

٣۔الصَّنْدَلَ: (ن) ایک خوشبودار لکڑی کا درخت، صندل۔ والصُّنَادِل: بڑے سروالا۔الصَّندلانی جمع صَنَادِلة: عطار۔

صُنْدُوق و صَنْدُوق جمع صَنَادیق: کریٹ، صندوق، پیٹی، لکڑی کا صندوق، ٹرنک بکس، بکسا، سوٹ کیس، ڈبہ، دکان میں روپیہ رکھنے کی غلک، تختہ کے نیچے کی غلک، الماری، کوفر، ادائیگیوں کا دفتر، خزانچی کا دفتر، خازن کا دفتر، کوئی عوامی ادارہ جہاں روپیہ جمع کرایا جائے یا کسی مقصد کے لئے ادا کیا جائے جیسے بیماری کا فنڈ، صحت کا بیمہ وغیرہ۔صندوق البرید: پوسٹ بکس۔صندوق المکاتیب: میل بکس۔ صندوقُ النَّقْدِ الدُّوَلِیّ: بین الاقوامی مالیاتی ادارہ یعنی International Monetaryy Fund جس کا مخفف IMF ہے۔صندوق التوفیر: سیونگز بینک۔ابو صندوق: کبڑا۔امین الصندوق: خزانچی، خازن۔دفتر الصندوق: کیش بک، روکڑ، بہی۔صَنْدَل: صندل، چندن، سینڈل، چپل جمع صنادل: بجرا، نواڑا۔

صنر: الصِّنَارو الصِّنَّار: (واحد صِنَارة صِنَّاره (ن): چنار کا درخت (فارسی لفظ) الصِّنَّارة جمع صَنَانیر: تکلے کے سرے پر مڑا ہوا لوہا۔صِنَّارَةُ الصیَّاد: مچھلی پکڑنے کا کانٹا، بنسی کہتے ہیں۔رجلٌ صِنَّارَةٌ و صِنَّارَة: بدخلق آدمی (اسکی جمع صنایر آتی ہے) الصِّنَّور: بخیل، بدخلق۔

صِنَّارَة جمع صَنَانیر: ہک، آنکڑا، کانٹا، مچھلی پکڑنے کا آلہ۔صُنْبُور جمع صَنَابیر: (پانی کی) ٹونٹی۔

صنع: اصَنَعَ۔صَنْعًا و صُنْعًا الشیءَ: کو بنانا۔به صَنِیعًا قبیحًا: کے ساتھ برائی کرنا۔صَنَّعَ الشیءَ: اچھی کاریگری سے چیز کو آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا۔أَصْنَعَ الرجُلُ: سیکھنا، مہارت سے کوئی کام سرانجام دینا۔تَصَنَّعَ: بناوٹی مزین ہونا، بناوٹ کرنا۔ت المرأةُ: عورت کا پاوڈر، کریمیں وغیرہ استعمال کرکے بناؤ سنگار کرنا۔اصطنع شیئًا: کسی چیز کے بنانے یا تیار کرنے کا حکم دینا۔اسْتَصْنَعَهُ الشیءَ: کو کے بنانے کے لئے کہنا۔الصُّنع (مص) کام۔رجلٌ صُنُعُ الیدین جمع رجال صَنَعُون: اچھا

ہوا، درزی، کپڑا، پگڑی، حوض، قلعہ، گوشت بھوننے کی سیخ۔رجلٌ صِنع الیدین جمع رجال صِنْعُون: ماہر کاریگر اور دستکار۔الصَّنْعَة: اسم مرة۔الصَّنَعَة: ہنر، کاریگری۔الصَّنَاع: پانی کو وقتی طور پر روکنے کے لئے نالی میں لگائی ہوئی لکڑی۔رجلٌ صَنَاع الیدین جمع صُنُع و صَنَعُ الیدین: کاریگری میں ماہر، اسی طرح کہتے ہیں۔امرأةٌ صَنَاعُ الیدین و امرأتان صَنَاعان و نِسوةٌ صُنُع: (مذکر کی طرح) دستکاری میں ماہر ایک، دو یا زائد عورتیں، شاعر و بلیغ کے لئے کہتے ہیں۔هو صَنَعُ اللسان وله لسانٌ صَنَعٌ۔الصِّنَاعة والصَّنَاعة جمع صِنَاعَات و صَنَائِع: ہنر، پیشہ، محنت، کاریگری، کیفیت علم سے تعلق رکھنے والا علم جیسے منطق کہا جاتا ہے کہ صَنَاعَة: محسوسات کے لئے ہے اور صِنَاعة: معانی کے لئے۔الصِّنَاعِیّ: صنعتی، مصنوعی، اس کے مقابل طبیعی ہے۔الصَّنَاعة: پانی کو روکنے کے لئے نالی میں لگانے کی لکڑی۔الصَّنِیع جمع صُنُع: بنا ہوا۔صیقل شدہ تلوار، تیر، عمدہ صاف کپڑا کہتے ہیں۔رجلٌ صنیعُ الیدین: دستکاری میں ماہر شخص۔م صنیعة الیدین قومٌ صَنْعَی و صِنْعَی و صُنْعَی و صَنَعَی و أَصْنَاعُ الایدی: کام کے ماہرین۔الصَّانِع (فا) جمع صُنَّاع: ہاتھ سے کام کرنے والا۔الصَّانِعَة: الصانع کا مونث کہتے ہیں۔امرأةٌ صانِعَةُ الیدیں: دستکاری میں ماہر عورت، عوام نوکرانی کو صانعة اور نوکر کو صانع کہتے ہیں۔المَصْنَع جمع مَصَانِع: جس میں بارش کا پانی جمع ہو جیسے حوض، کارخانہ۔المَصْنَعَة: گھروں سے دور ہٹ کر شہد کی مکھیوں کے لئے جگہ۔والمَصْنُعَة جمع مصانع: وہ جگہ جہاں بارش کا پانی جمع کیا جاتا ہے جیسے حوض۔ المَصَانِع: دیہات، قلعے، محلات۔

٢صَنَعَ۔صَنْعًا و صُنْعًا الیه معروفًا: کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا۔أَصْنَعَ الرجُلُ: دوسرے کی مدد کرنا۔اصْطَنَعَ عنده صنیعَةً: کے ساتھ نیکی کرنا۔فلانٌ: خیراتی کھانا پکانا۔الرزقَ: رزق پیش کرنا۔الصُّنع: احسان، رزق۔الصَّنِیع جمع صُنُع: احسان، کھانا۔الصنیعة جمع صَنَائع: احسان۔ المَصْنَعَة: کھانے کی دعوت کہتے ہیں۔کُنَّا فی مَصْنَعة فلان: ہم فلاں کے ہاں کھانے کی دعوت پر تھے۔

٣صَنَعَ۔صَنْعًا والصَّنْعَةَ الفرسَ: گھوڑے کو اچھی

لنفسه: کو اپنے لئے چن لینا۔صَنْعَةُ الفرس: گھوڑے کو سدھارنے کا ہنر۔الصَّنِیع جمع صُنُع: سدھایا ہوا گھوڑا کہتے ہیں۔سیفٌ صَنِیع: صیقل کی ہوئی تلوار۔فلانٌ صنیعی: فلان میرا تربیت یافتہ ہے۔الصَّنِیعَة: کہتے ہیں: هو صَنِیعتی: میں نے اس کی تربیت کی، ماہر بنایا اور نیک کاموں کے لئے وقف کردیا۔

٤۔صَانَعَ مُصَانَعَةً هُ: کو دھوکا دینا فریب دینے کی کوشش کرنا، کو رشوت دینا۔مثل ہے: من صانَعَ بالمال لم یحتشم من طلب الحاجة: رشوت دینے والا اپنا کام کروانے سے نہیں شرماتا۔هُ عن الشیء: کو کے متعلق دھوکا دینا۔الرجلَ: کو رفیق بنانا۔

٥۔الصَّنْع: (ح) ایک چھوٹا جانور۔

صَنَعَ۔صَنْعًا و صُنْعًا و صَنِیعًا هـ: کچھ کرنا، بنانا، کو تربیت دینا، کو شاندار طریقے سے کرنا، کا خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن بنانا۔صَنَعَ الیه معروفا: پر مہربانی کرنا۔صنع معه جمیلا: پر کرم فرمائی کرنا۔صنع به صنیعا قبیحا: کے ساتھ برائی کرنا۔صَانَعَ ہ/ هـ: کے ساتھ تعاون کرنا۔ہ: کی خوشامد کرنا، سے چاپلوسی سے کام نکالنا۔ہ ب: کو کچھ رشوت دینا۔تَصَنَّعَ: کا بہانہ کرنا یا بنانا، کا حیلہ کرنا، تصنع کرنا، بنا (بناوٹی چیز) سر منڈھانا، جھوٹ، موٹ کرنا، بناوٹ سے کام لینا، جھوٹا اظہار کرنا۔: مصنوعی طریقہ سے بولنا یا لکھنا (عورت کا) اپنے حسن کی دلکشی بڑھانے کے لئے مختلف ذرائع استعمال کرنا۔اصطنع هـ: کا حکم دینا، کی تخلیق کرنا (مرکبات کے ذریعے) بنانا، کو ایجاد کرنا، کا بہانہ کرنا۔هـ ل: کو کیلئے استعمال کرنا، کو میں بدلنا۔ہ ل: کو کا پابند بنانا، کو ذمہ دار بنانا۔استصنع ہ هـ: سے کچھ بنوانا۔صَنْعٌ و صُنع: پیداوار، بنانا، ڈیزائن کرنا، کاریگری، مہارت۔صنع الید: دستکاری۔بدیع الصَّنع: حیرت انگیز کاریگری، مہارت کا۔صَنْعی: مصنوعی، ترکیبی۔صُنْع: مہربانی، کرم، بہتری، نفع منفعت، بہبود، فائدہ۔ صُنْعَة: کام، کاریگری، مہارت، بنانا، فن، فنی مہارت، فنکارانہ مہارت، ہنر، پیشہ، کام۔صاحب الصُّنْعَة: کاریگر، دستکار، صناع، ماہر، متخصص، سپیشلسٹ۔ صَنَّاع الید: ماہر، سبک دست، کاریگر، منجھا ہوا، مَشَّاق۔صِنَاعَة جمع صِنَاعَات و صَنَائِع: فن، مہارت، پیشہ، بزنس، کاروبار، دستکاری انڈسٹری، صنعت (جمع کے معنی میں (صنعت کی شاخیں، صنعتیں۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کاریگرلوگ، دستکارلوگ۔ صنعتکار
رجلُ الصناعة: دستکارلوگ، دکاندار
اصحابُ الصنائع والحِرَف: لوگ۔ مصنوعی ترکیبی۔ نقلی (imitation)
صِناعِيّ: ماہرانہ، دستکاری کے متعلق صنعتی، صنعتی
صِناعي: عملی فنون، خوبصورت یا ساز۔
الفن الصِناعِيّ: نکارانہ دستکاری۔ کام، حقیقت، نیکی،
صنیع: بھلائی، بہبود، مہربانی، کرم فرمائی، رضا کار آلہ کار،
کھانا۔ جمع کام، نیکی، بھلائی
صنیعة صنائع: بہبود، مہربانی کرم، رضا کار، آلۂ کار۔ جمع
مَصنع: فیکٹری، پلانٹ، مل، کارخانہ، فرم۔
مصانع: بڑی بڑی عمارات، تنصیبات، انسانی ہاتھوں
مصانع: سے کام۔ ارباب (اصحاب)۔ صنعتکار،
المصانع: کارخانے دار۔ تنخواہ، اجرت۔
مَصْنَعِيَّة: صنعتی بنانا۔ صنعتیں، قائم کرنا۔ تصنیع: منافقت،
تصنّع: مکاری، نیت کو پوشیدہ رکھنا، بناوٹ، تصنع، جھوٹی
مروت، تکیہ فن، عجیب مخصوص انداز۔ بنانا
اصطناع جمع: مصنوعی، ترکیبی نقلی۔
اصطناعی: صانع جمع صُنّاع: بنانے والا، خالق، کاریگر، دستکار، کام کرنے والا،
کارکن، مل مزدور، مزدور، نوکر۔ پیداوار،
مَصنوع (مصنوعی) مصنوعہ چیز جمع مصنوعات،
مَصنوعات: پیداوار، اشیاء، مصنوعہ سامان۔ باریکیاں
مُتصنّع: پیدا کرنے والا، ظاہر دار، بناوٹی، تصنع والا۔
مُصطنع: مصنوعی، ترکیبی، بناوٹی نقلی جعلی۔ مِفتاح
مصطنع: نقلی چابی، ماسٹر کی (master key)

صنف: ۱۔ صَنَّفَ الشيءَ: کی قسمیں بنانا، کے زمرے بنانا، کو ایک دوسرے سے تمیز کرنا۔ الشجر: و درخت کا طرح طرح کے پتے نکالنا۔ التمرُ: کھجور کا کچھ کچھ پکنا۔ تَصنَّفَ الشجرُ او النباتُ: درخت یا نباتات کا مختلف قسموں میں ہونا۔ الصِنف جمع أصناف اسکی صفت کہتے ہیں۔ صِنفُهُ كذا: وصُنُوف: صفت ایسی ہے۔ والصَنف جمع أصناف و صُنُوف: نوع، قسم کہتے ہیں۔ عندہ صنفٌ من الامتعة: اس کے پاس چیزوں کی ایک قسم ہے۔

۲۔ تَصَنَّفَ الشجرُ او النباتُ: درخت یا نباتات کا پتے نکالنا۔ ت الشفةُ: ہونٹ کا پھٹنا، چھلنا۔ ت الساقُ: ٹانگ ترق کی۔ الأصنف جمع صُنف (ح) وہ شتر مرغ جس کی ٹانگیں پھٹی ہوئی ہوں۔

۳۔ صنّفَ الكتابَ: کتاب تصنیف کرنا، مرتب کرنا۔ التصانیف: (واحد تصنیف) تصنیف شدہ کتابیں۔ المُصنَّف جمع مُصنَّفات: کتاب (تالیف شدہ)

۔ ... جمع أصناف ... کپڑے کا کنارہ، حاشیہ۔ الصِنفة والصَنِفة من الثوب: کپڑے کا کنارہ، حاشیہ۔

۵۔ الصُنافِر: ہر چیز کا اصل۔ الصُنافِرة: کہتے ہیں۔ وَلَدٌ صُنافِرةٌ: جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔

صَنَّفَ: کی الگ الگ ڈھیریاں بنانا، کی چھانٹ چھانٹ کر قسمیں الگ الگ کرنا، کی درجہ بندی کرنا، قسم مقرر کرنا۔ (کتاب) مرتب کرنا، تالیف کرنا، لکھنا۔ صَنف و صِنف جمع أصناف و صُنُوف: قسم، نمونہ، مثال، چیز، جنس، نوع، طبقہ، درجہ، زمرہ، جنس۔ (sex) جنس کی صورت میں۔ صنفاً:
تصنیف: ترتیب، درجہ بندی، الگ الگ ڈھیریاں بنانا، چھانٹ چھانٹ کر قسمیں الگ الگ کرنا، تالیف، تدوین، تحریر، انشاء، لکھنا جمع ادبی (تخلیقی)
تصانیف: کام، کلیات، تحریریں۔ تَصْنِفَة: چھانٹ چھانٹ کر بنائی ہوئی قسم، انتخاب، چنی ہوئی چیزیں۔ مُصنِّف: مُصنف، لکھنے والا، قلم کار۔ مُصَنَّف جمع مُصَنَّفات: ادبی کام۔

صَنفَرَ ہ: کو ریگمال سے رگڑنا، کو ریگمال کرنا۔

صنق: ۱۔ صَنِقَ - صَنَقًا جسدُهُ او اِبطُهُ: جسم یا بغل کا بہت بدبودار ہونا۔ صفت۔ صَنِق۔ أَصْنَقَ الرجُلَ العَرَقُ (مص): پسینہ کا کسی کی بغل کو بدبودار بنانا۔ الصَنَق: بغل کی تیز بدبو۔ الصَنِق: بدبو دار۔ الصَائِق جمع صَنِقَة: سخت بدبودار۔
۲۔ أَصْنَقَ عليه: پراصرار کرنا۔
۳۔ أَصْنَقَ فِي مَالِه: مال کی اچھی دیکھ بھال کرنا۔ المُصْنِق والمِصْناق: اونٹوں کی اچھی خدمت کرنے والا۔
۴۔ رَجُلٌ صَنِق: بھاری بھرکم مرد، لحیم شحیم، جسیم، موٹا، فربہ آدمی۔

صنم: صَنِمَ - صَنَمًا العبدُ: غلام کا مضبوط وقوی ہونا صفت۔ صَنِم م صَنِمَة جمع صَنِمات۔ ت الرائحةُ: بو کا خراب ہونا۔ صَنَّمَ: آواز دینا۔ الصَنَم جمع أصنام: بت (فارسی، آرامی یا عبرانی لفظ) الصَنَمَة: (جانور کے) پر کا قلم، مصیبت۔

صنا: ۱۔ أَصْنَى اِصناءً و تَصَنّى تَصَنِّيًا: حرص کی وجہ سے ہانڈی کے پاس بیٹھ کر کباب بنانا، گوشت بھوننا، یہاں تک کہ راکھ لگ جائے۔ الصِناء و الصِنى: راکھ۔
۲۔ أَصْنَى النخلُ: درخت خرما کا جڑ سے دوشاخیں نکالنا۔ الصَنو م صَنْوة جمع أَصْناء و صِنوان: سگا بھائی، بیٹا، چچا۔ ... جمع ...

سگا بھائی، بیٹا، چچا۔ او الصِنو: ایک جڑ سے دو یا دو سے زائد کھجور کے درخت پھوٹیں تو ہر ایک کو صِنو یا صُنو: کہتے ہیں۔ تثنیہ۔ صَنوانِ و صُنیان جمع صِنوان: کہتے ہیں۔ رکیّتانِ صِنوانِ: پاس پاس ایک ہی چشمے سے نکلنے والے دو کنویں۔ الصَنوة: سگی بہن، بیٹی، پھوپھی۔ والصِنوة: درخت خرما کا ننھا پودا، کونپل۔
۳۔ الصَنو جمع صُنُوّ: دو پہاڑوں کے درمیان گہرائی جس میں تھوڑا پانی بہتا ہو۔ الصاني: خدمت گار۔ الصِنايَة: تمام، کل، کہتے ہیں۔ أَخَذَ بِصنايته: اس نے تمام کا تمام لے لیا۔

صِنو جمع صِنوان و أَصناء: دو میں سے ایک، جڑواں بھائی۔

صہ: ۱۔ صَهْ: اسم فعل بمعنی چپ رہ خاموش ہو۔ (مذکر مونث اور جمع کے لئے یکساں ہے) کہتے ہیں۔ صَهٍ: خاموش۔ صَهَّ القومَ: لوگوں کو جھاڑ جھاڑ کرنا، ڈانٹنا۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔
۲۔ صَهْصَهَ بالقوم: صہ صہ کہہ کر لوگوں کو خاموش کرنا۔

صہب: ۱۔ صَهِبَ - صَهَبًا و صُهْبَةً و صُهُوبًا و اصْهَبَّ و اصْهَابَّ الشعرُ: بالوں کا سرخ یا سرخ سفید ہونا۔ صفت۔ اصْهَبُ الصُهاب: ایک جگہ جس کی طرف اونٹ منسوب ہوتے ہیں۔ الصُهابِي من الجمال: موضع صُہاب کی طرف منسوب اونٹ جو بہت سفید نہ ہو۔ الأَصْهَب م صَهْباء جمع صُهْب: سرخی ملی سفیدی والا (ح) شیر۔ أَصْهَبُ السِبال: دشمن۔ الصَهْباء: الأَصْهَب کا مونث: شراب۔ المُصَهَّب: چربی ملا گوشت، نیم بریاں گوشت۔
۲۔ الصُهابی: وافر، سخت، اسی سے ہے۔ الموت الصُهابي: سخت قسم کی موت۔ الصَيْهَب جمع صَياهِب: لمبا تڑنگا آدمی، سخت چٹان، ہموار زمین، گرمی کی تیزی، گرم دن، جگہ جہاں دھوپ کی گرمی سے گوشت بھن جائے۔ الأَصْهَب م صَهْباء جمع صُهْب: ٹھنڈا دن۔

صہد: ۱۔ صَهَدَ - صَهْدًا ته الشمسُ: آفتاب کا کسی کو جھلسنا (صخدته بھی اس معنی میں ہے) الصَهَدان الصَيْهَد والصَيْهُود: گرمی کی تیزی۔
۲۔ الصَهْوَد: جسیم۔ الصَيْهَد والصَيْهُود: بے آب و گیاہ بیابان، متحرک سراب۔ عِزٌّ صَيْهُودٌ: ناقابل تسخیر قوت۔

... ۱۔ صَهَرَ - صَهْرًا الشيءَ: کو پگھلانا، کو پگھلی ...

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہوئی چربی ملنا۔ الخبزَ: کو پگھلی ہوئی چربی کا سالن
بنانا۔ صفت مفعولی صهیر و مَصْهُور۔ ــــ تہ
الشمسُ: کو سورج کا گرمی پہنچانا۔ فُلانًا
بالیمین: کو سخت قسم کھلانا۔ اصْطَهَرَ الشیءَ: کو
پگھلانا۔ واصْهَارَّ الحرباءُ: گرگٹ کی پیٹھ کا دھوپ
کی گرمی سے چمک اٹھنا۔ انْصَهَرَ الشیءُ:
پگھلنا۔ الصَّهْر: (مص) گرم۔ الصُّهارة: پگھلائی
ہوئی چیز، ہڈی کا گودا، چربی کا ٹکڑا۔ الصهور جمع صُهُر
پگھلانے والا، گوشت بھوننے والا۔ الصَّهِیر
پگھلنے والا۔
۲۔ صَهَرَ۔ صَهْرًا الشیءَ: کو قریب کرنا، نزدیک
کرنا۔ صَاهَرَ مُصَاهَرَةً القومَ و فی القوم: کا
سسر بننا، داماد بننا۔ أَصْهَرَهُ: کو قریب کرنا، نزدیک
کرنا۔ ــــ بالقوم و الیهم و فیهم: کا سسر بننا،
داماد بننا۔ الجیش للجیش: لشکر کے ایک حصہ کا
دوسرے حصے کے قریب ہونا۔ الصِّهْرُ جمع أَصْهار
صِهْرَة: قرابت، داماد یا بہنوئی۔
۲۔ صَهْرَجَ الغرفةَ: کمرہ کو چونے سے لیپنا۔ الصاروج:
چونا (ان بجھا) الصِّهْرِیج والصُّهَارِج (ج)
صَهَارِیج و الصِّهْرِی: پانی کا حوض، تالاب، تیل کی
ٹینکی، پانی یا تیل جیسی اشیاء لے جانے والا ٹرک۔
حوض صَهَارِج: حوض یا ٹنکی جس کو چونے سے
لیپا گیا ہو۔ (فارسی لفظ)
٭ صَهَرَ۔ صَهْرًا ہ: کو پگھلانا۔ صَاهَرَه او فی:
کا شادی کے ذریعے رشتہ دار بن جانا۔ أصْهَرَب او
الی: شادی کے ذریعہ کا رشتہ دار بن جانا۔ تَصَاهَرَ:
شادی کے ذریعہ رشتہ دار ہونا۔ انْصَهَرَ: پگھلنا، ختم
ہو جانا، جاتا رہنا، آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو
جانا، ٹوٹنا، شدت کم ہونا، زور ٹوٹنا۔ مُصَاهِر
پگھلانے والی بھٹیاں۔ مِصْهَر جمع مِصْهَرات فیوز
مُصَاهَرَة: قرابت، قرابت داری، رشتہ داری، تعلق
(ازار بندی) اِنْصِهار: پگھلانے کا عمل۔ سِلْك
الانصهار الواقی: فیوز۔ صِهْرِیج و صُهْرِیج
جمع صَهَارِیج: حوض، ٹینکی، تالاب، پانی کی بڑی
ٹینکی۔
صهص: الصَّهْصَلِق و الصَّهْصَلِیْق من الاصوات
سخت آواز۔
صهل: صَهَلَ۔ صَهِیلًا و صَاهِلَةً و صُهَالًا الفرسُ:
گھوڑے کا ہنہنانا۔ تَصَاهَلَ ت الخیلُ: گھوڑوں
کا ایک دوسرے کی طرف ہنہنانا۔ الصُّهَال: گلا
پڑنے کے ساتھ آواز کی تیزی۔ الصَّاهِل جمع صَوَاهِل
(فا): گھوڑا (جس طرح ناچ کتے کو کہا جاتا ہے)
الصَّاهِلَة جمع صَوَاهِل صَاهِل کی مونث۔ الصَّوَاهِل:
گھاس میں مکھیوں وغیرہ کی بھنبھناہٹ۔ الصُّهَال
والصَّهِیل: گھوڑے کی آواز، ہنہناہٹ۔ الصَّهَّال
من الخیل: بہت ہنہنانے والا گھوڑا۔
صها: ۱۔ صَهَا۔ صَهْوًا و صَهِیَ یَصْهَی صَهًی:
نمناک زخم والا ہونا۔ ــ الرجلُ: مالدار ہونا۔
۲۔ صَهِیَ۔ صَهْیًا: عمر رسیدہ ہونا۔
۳۔ صَاهَی الدابةَ: جانور کی پیٹھ پر سوار ہونا۔ أَصْهَی
اصْهاءَ الفرسُ: گھوڑے کی پیٹھ کا درد کرنا۔ الصَّهْوَة
جمع صِهَاء و صَهَوَات: گھوڑے کی پیٹھ (کہتے
ہیں۔ استوی علی صَهْوَةِ العِزّ: وہ طاقت کی
پشت پر سوار ہوا) کوہان کا پچھلا حصہ۔ جمع صُهًی:
پہاڑ کی چوٹی کا برج۔ جمع صِهَاء: پست زمین جس
میں پانی اکٹھا ہو جائے، پانی کا چشمہ۔
٭ صِهْیَوْن: صیہون (zion)
صِهْیَوْنِی: صیہونی (zionistic, zionist)
صِهْیُونیة: صہیونیت۔
نوٹ: صیہون کے تین مفہوم ہیں (۱) بیت المقدس،
القدس، یروشلم (۲) اس کی مقدس پہاڑی،
(۳) آسمانی بادشاہت، صیہونیت، ایک تحریک ہے جس کا
نقطۂ عروج اسرائیل کی نام نہاد ریاست کا قیام ہے۔
صاب: ۱۔ صَابَ۔ صَوْبًا و مَصَابًا المطرُ: بارش
برسنا۔ ــــ الشیءُ: اوپر سے اترنا۔ ــ صَوْبًا الماءَ:
پانی بہانا۔ ـهُ المطرُ: کو بارش کا پہنچنا۔ ت السماءُ
الارضَ: آسمان کا زمین پر پانی برسانا۔ صَوَّبَ الماءَ:
پانی گرانا۔ ــ الاناءَ: برتن کو جھکانا تا کہ اس میں کا پانی
وغیرہ نکل جائے۔ ــ رأسَهُ: سر کو نیچے کرنا۔ ــ المکانَ
وغیرَهُ: کی جگہ وغیرہ کا ڈھلوان ہونا۔ أَصَابَ
الشیءَ: کو نیچے لانا، پانا، جڑ سے اکھیڑنا۔ ــــ ت
المصیبةُ فلانًا: پر مصیبت نازل ہونا۔ اِصَابَةً و
مُصَابَةً الدهرُ القومَ باموالهم اونفوسهم:
زمانہ کا لوگوں کو ان کے مال اور جانوں کی تکلیف دینا،
لوگوں پر مالی و جانی مصیبت ڈالنا۔ تَصَوَّبَ: نیچے
اترنا۔ انْصَابَ انصیابًا الماءُ: پانی بہنا، زور سے
نکلنا۔ الصَّاب (واحد صابة) (ن) ایک کڑوا
پودا، اس پودہ کا رس، عرق۔ الصَّابَة: مصیبت۔
الصَّوْب: بخشش، عطا۔ والمَصِیب: بارش والا
بادل۔ مطرٌ صَیُّوبٌ: برسنے والی بارش۔ الأَصْوَب
اسم تفضیل۔ المُصِیبَة جمع مَصَائِب
و مَصَاوِب: سخت مصیبت والا۔ المُصَابَة [illegible]
والمَصُوبَة: مصیبت، بلا، صدمہ، ناگہانی آفت،
حادثہ، سانحہ۔
۲۔ صَابَ۔ صَوْبًا و صَیْبُوبَةً السهمُ نحوَ الرمیَّةِ:
تیر کا سیدھا جا کر نشانہ پر لگنا۔ ــــ صَیْبًا السهمُ
القرطاسَ: تیر کا نشانہ پر لگنا۔ صَوَّبَ السهمَ:
تیر کو سیدھا کرنا۔ ــ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑنے کے
لئے چھوڑنا۔ ــ رأیَهُ: رائے کی تصدیق کرنا۔ ــ فلانًا:
کی تصدیق کرنا۔ أَصَابَ السهمُ: تیر کا ٹھیک
نشانہ پر لگنا۔ ــــ الرجلُ: درست کرنا۔ ــ الشیءَ:
کو ٹھیک خیال کرنا۔ ـهُ بعینه: کو نظر لگانا۔ اسْتَصَابَ
اسْتِصَابَةً او اسْتَصْوَبَ اِسْتِصْوَابًا الرأیَ
او الفعلَ: کسی رائے یا فعل کو ٹھیک خیال کرنا۔ الصَّوْب:
(مص) درستگی، جانب کہتے ہیں: فلانٌ مُسْتَقِیمُ
الصَّوْبِ: فلاں شخص اپنے مقصد سے دائیں بائیں
نہیں ہٹا۔ الصَّوَاب: درستگی، درست، ٹھیک، لائق،
حق، عام لوگ اس کو عقل اور شعور کے معنی میں استعمال
کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں۔ غاب او طار صوابُهُ:
اس کا عقل و شعور جاتا رہا۔ الصَّائِب (فا) جمع
صُیَّاب: (جیسے نائم و نیام) ٹھیک، صحیح، حق۔ صُوَّابَة
و صُیَّاب و صُیَّابَةُ القومِ: قوم کے چیدہ لوگ۔
الصَّوِیب: ٹھیک رائے والا۔ الصَّیُّوب:
ذہین۔ المُصَاب: مصیبت (کا شکار) چوٹ ضرب۔
المُصِیب: صحیح، درست۔
۳۔ أَصَابَ من الشیءِ: کو لینا۔ المِصْوَب: چمچہ،
ڈوئی۔
۴۔ الصابة: عقل کی کمزوری کہتے ہیں۔ فی عقله صابَةٌ:
یعنی اس کی عقل میں کچھ جنون ہے۔ الصُّوبَة: غلہ کا
ڈھیر۔ المُصَاب: تھوڑا پاگل (ن) گنا۔
الصَّوْبَج و المِصْوَبَج: بیلن۔
۵٭ صَابَ۔ صَوْبًا و صَیْبُوبَةً ہ: (نشانہ) پر لگنا، صحیح
ہونا، درست ہونا۔ متعلق ہونا (رائے کا) برمحل ہونا،
موزوں ہونا، مناسب ہونا۔ صَابَ ام اقلع: سب
حالات کے تحت، یقینًا۔ صَوَّبَ (ہ الی): کا رخ
کی طرف کرنا۔ (ہ) سے اتفاق کرنا، متفق ہونا۔ ــ
(ہ ہ) ــ ہ سے میں اتفاق کرنا، متفق ہونا۔ ــ ہ: کو
ماننا، ہاں کہنا، کی اجازت یا منظوری دینا، پر رضامندی
ظاہر کرنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔
أَصَابَ ہ: نشانہ پر لگنا۔ ــ ہ: کو حاصل کرنا،
تک پہنچنا۔ ــ ہ ــ ہ: کے لئے ہاتھ بڑھانا۔
ــ ہ: کو حاصل کرنا، جیتنا۔ (علم و معرفت کا کچھ حصہ)
ــ ہ: (کھانا وغیرہ) کھانا تناول کرنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پر پڑنا، واقع ہونا، کو پیش آنا، واقع ہونا۔ -- ہ ب: کو کچھ دینا، کے لئے کچھ مختص کرنا، متعین کرنا، کو کچھ عطا کرنا، سے سرفراز کرنا۔ ب ہ: کوئی چیز کسی کے حصہ میں آنے دینا۔ مـــن: کو نقصانات پہنچانا، ـــ درست ہونا، حق پر ہونا، صحیح کام کرنا، صحیح بات کہنا۔ اُصیب ب: مصیبت (وغیرہ) زدہ ہونا) بیماری میں مبتلا ہونا، تکلیف میں پڑنا۔ ـــ: مارا جانا۔ اصـاب اصابـات: (کھیلوں میں) گول کرنا۔ اصـاب فی عـمـلـه: صحیح کام کرنا، درست طور پر کوئی کام کرنا۔ اُصِیبَ بجراحٍ کوئی زخم آنا۔ اصیب بخسارة: نقصان اٹھانا۔ اصیبَ اصـابةً شـديدةً: سخت چوٹ کھانا۔ استـصـوب ہ کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، منظور کرنا، کی منظوری دینا۔ صــوب: طرف، جانب، صحیح اور حق بات، مناسب صحیح۔ صوبَ: کی طرف، کی جانب۔ من کل حَدَبٍ و صـوبٍ یا من کل صوب و حدب یا من کل فـج و صــوب: سب طرف سے، چاروں طرف سے، ہر طرف سے۔ فـی کل صوب وحدب: ہر جگہ، چاروں طرف، سب جگہ۔ صَيِّـب: بارش والا بادل۔ صَابَہ جمع صَابات: کنائی۔ صواب حق، موزوں اور صحیح درست، مناسب، ٹھیک، درستگی، موزونیت، عقل، سمجھ، ذہانت، فہم فراست، ذہن دماغ شعور۔ صَـوابـاً: ٹھیک، انصاف سے۔ هو عـلـی صـواب: وہ حق پر ہے۔ سَـلَكَ طِـريـق الـصـوابِ والحقِ: بالکل صحیح طریقے سے کام کرنا، صحیح راستہ پر چلنا۔ رجـع (فـاء) الـی صـوابـه: دوبارہ عقل وشعور حاصل کرنا، دوبارہ ہوش میں آنا، دوبارہ معقول ومناسب ہوجانا۔ قَـصَـدَ صـوابَـهُ، اضاع صوابَهُ: ہوش کھو دینا۔ غاب عن صوابه: بیہوش ہوجانا۔ غـائـب عـن صـوابـه: بیہوش۔ أصـوَب: زیادہ برمحل، زیادہ موزوں، زیادہ مناسب، زیادہ صحیح۔ اُصْـوَبِيَة: مناسبت، مصلحت، دانشمندی۔ اصابة جمع اصـابات: مارنا، گول، سکور، زخم، چوٹ، کسی بیماری کا شکار ہونا (بیماری، حادثہ کا) حملہ۔ اصـابة الـعمل: صنعتی حادثہ۔ مـحـل الاصابة: حادثہ کی جگہ، استـصـواب: پسند، پسندیدگی، اجازت منظوری۔ صـائـب: برمحل، موزوں، مناسب، ٹھیک درست، برجستہ، برمحل، موزوں، مناسب، ٹھیک، صحیح۔ مُصِيبَة جمع مُصِيبَـات و مَـصَـائِـب: بدبختی، حادثہ، مصیبت، آفت، سانحہ۔ مُـصَـاب ب: کا شکار میں مبتلا، جس پر کوئی تکلیف آپڑی ہو، جس کو دکھ پہنچا ہو، ـــ: چوٹ زدہ، زخمی، بیمار، زخمی شخص، جنگ یا حادثہ کا مقتول یا مجروح، حادثہ کا شکار۔ ـــ: بدبختی مصیبت، آفت، سانحہ۔ مُصابٌ اَلِيم: المناک، پر ملال حادثہ، غمگین واقعہ، موت۔ صَوْبَة: ولایتی چولہا (stove) (ترکی کا لفظ ہے اور اس معنیٰ میں شام میں مستعمل ہے)

صات: ۱۔ صَاتَ ۔صَـوْتـاً: آواز نکالنا، آواز دینا، پکارنا۔ صَـوَّتَ تـصـویتـاً: آواز نکالنا، آواز دینا۔ الطستَ: طشت بجانا۔ فی الانتخابات انتخابات میں اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ دینا۔ أَصَـاتَ اصـاتةً: آواز نکالنا، آواز دینا۔ الـطـسـتَ: طشت بجانا۔ انْصَات: کہتے ہیں۔ دُعِیَ فانصات اسے پکارا کیا گیا تو اس نے سنا اور چلا آیا۔ الـصَـوْت جمع اصْـوَات: آواز، ہر قسم کا راگ، نحویوں کے نزدیک: اسماء اصوات: (وہ الفاظ ہیں جن سے آواز کی نقل کی جائے) جیسے طَـقْ: پتھر گرنے کی آواز ہے یا حیوانات سے کام لینے کے لئے جو آواز نکالی جائے جیسے هَلاَ گھوڑے کو۔ عَدَسْ خچر کو ڈانٹنے کے لئے یا تعجب کی حکایت کی جائے جیسے وَیْ یا درد کی حکایت ہو جیسے اخ یا حسرت وافسوس کے لئے ہو جیسے آہ۔ الـصـات والصَيِّت: بلند اور تیز آواز والا کہتے ہیں۔ رَجُـلٌ صـاتٌ و صوتٌ صَيِّتٌ: یعنی بلند آواز والا آدمی اور تیز آواز۔ الصِيتَة: اسم نوع۔ الـتـصـويـت: انتخابات میں ووٹ دینا، ووٹ۔ الـمِـصْـوَات بہت آواز دینے والا کہتے ہیں۔ مـابـالـدار مِـصْـواتٌ: گھر میں کوئی بھی نہیں۔ الـمُـصَـوِّت جمع مُـصَـوِّتـون: ووٹر، ووٹ دہندہ، رائے دہندہ۔

۲۔ أَصَات بِفلانٍ: کسی کو ایسی بات سے مشہور کرنا جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ انـصـاتَ به الزمانُ زمانہ نے اس کو مشہور کردیا وہ مشہور ہوگیا۔ الصَوْت والصَات و الـصِـيْـت و الـصِيتَة: اچھی شہرت کہتے ہیں۔ انْتَشَـر صـوتُهُ بين الناس: یعنی اس کی اچھی شہرت لوگوں میں پھیل گئی۔

۳۔ انْصَاتَ الرجُل: چپکے سے چلا جانا۔

۴۔ انْـصَـاتَ الرجُل: کبڑا ہونے کے بعد کسی کے قد کا سیدھا ہوجانا۔

○ صَاتَ ۔یَـصُـوتـاً: آواز دینا یا نکالنا، آواز بلند کرنا، چلانا۔ صَـوَّتَ بمعنی صـات نیز ووٹ دینا، ووٹ ڈالنا (انتخابات میں) صَوْت جمع اصوات: آواز، لہجہ، سر، موسیقی، نغمات، دھن، شور، شہرت، نیک نامی، چرچا، مشہوری، ووٹ (جمع حروف ندبہ وفجائیہ) بُـعد الـصـوت: شہرت ناموری۔ رجـع الـصـوت: گونج، صدائے بازگشت، بازارتعاش۔ علم الاصوات: صوتیات (Phonetics) قوّة الصوت: (آواز کا) حجم یا گونج، زور، شدت۔ (ریڈیو کی اصطلاح میں) بصوتٍ مَسْمُوع اتنی آواز سے کہ سنی جاسکے۔ بصوت عالٍ: زور سے چلا کر۔ بصوت وَاطِئٍ: نیچی آواز میں، دھیمے پن سے، سرگوشی کے انداز میں۔ صَـوْتِـی ملفوظ، آواز کا، نطقی، صوتی، سماعی، گونجتا ہو، گونج پیدا کرنے والا۔ صُوَات چلانے والا۔ صِیت: (اچھی) شہرت، مسلمہ حیثیت، وقار ناموری۔ مشہوری۔ بـعدُ الصِيت: شہرت، ناموری۔ ذائع الـصـيت: مشہور، نامی گرامی۔ صَيِّـت: بلند آواز کا، لاؤڈ سپیکر (شام میں مستعمل ہے) مِـصْـوَات: خُردشنو، آواز رساں، مائکروفون۔ تـصـويـت: ووٹ دینا، ووٹ ڈالنا، پولنگ۔ (polling) صـائـت: کولن دار (مرکب الفاظ میں) سـيـنـما صائتة: بولتی فلم۔ مُـصَـوِّت: ووٹر، رائے دہندہ، ووٹ دینے کا حقدار، حق رائے دہی کا مالک۔

صـاج: الـصـاج: توا (روٹی پکانے کا) پتلی چادر کا لوہا۔ الصُوجه (ن): ایک اناج کا پودا۔

○ صاج مُضَلَّع: نالی دار چادر۔

صـاح: ۱۔ صَـاحَ ۔صَـوْحـاهُ: کو چیرنا، پھاڑنا۔ تَـصَـوَّح: پھٹنا۔ انْـصَـاحَ انْـصِـيَـاحًا: پھٹنا۔ الفجرُ: صبح کا روشن ہونا۔

۲۔ صَـوَّحَ الـبـقـلُ: خشک ہونا۔ سبزی ترکاری کا خشک ہو۔ ته الشمسُ اوالريحُ: کو سورج یا ہوا کا خشک کردینا۔ تَـصَـوَّحَ: خشک ہونا۔ الـصـاحة: بنجر زمین۔ الصُواح کھجور کا خشک شگوفہ۔ الصُوحان: خشک۔

۳۔ الصَوْح والصُوح: دریا کا کنارہ۔ دامنِ کوہ۔ الصُواح: گھوڑوں کا پسینہ۔

○ صَوَّحَ ہ: کو خشک کرنا۔ مُصَوَّح مرجھائی ہوئی یا خشک کی ہوئی (جڑی بوٹی وغیرہ۔)

صاخ: صَاخَ ۔صَوْخًا فی الارض: زمین میں دھنسنا۔ أَصَـاخ اصـاخةً لـه والـيـه: کی بات پر کان لگانا، کو سننا۔ کہتے ہیں: اَصَـاخ عـن كـذا: سے واپس ہونا، باز رہنا۔ اَصَاخَ علی حقِ فلان: وہ فلاں کے حق ضائع کرنے پر خاموش رہا۔ الصاخة جمع صَاخ و صَـاخـات: مصیبت، ہڈی میں چوٹ کا اثر۔ بـلـدٌ صُوَّاخٌ: وہ جگہ جہاں پاؤں دھنس جاتے ہوں۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

أصاخ اليه وله: کو غور سے سننا، پر کان لگانا، کان دھرنا۔

صود: الصوديوم Sodium صودا Soda صودا کاوية کاسٹک سوڈا۔ نترات الصودا sodium nitrate

صار ۱۔ صَارَ ۔صُوْرًا: آواز دینا، عام لوگ کہتے ہیں۔ صَوَّرَہ بصوتہ اپنی آواز کی تیزی سے اسکو بہرا کر دیا (سریانیہ) الصُّور: نرسنگھا، بگل۔

۲۔ صار ۔صَوْرًا الشيءَ: کو جھکانا آپ کہتے ہیں۔ صار عُنقَهُ او وجهَهُ اِلَيّ: اس نے اپنی گردن یا اپنا چہرے میری طرف جھکایا اور میری طرف متوجہ ہوا، کو اپنی طرف جھکانا کہتے ہیں۔ صُرتُ الغصن لاجنى الثمر: میں نے پھل توڑنے کے لئے ٹہنی کو اپنی طرف جھکایا اور یوں بھی کہتے ہیں: صارهُ لِصيرهُ يصيرهُ صيرًا اس نے اسے اپنی طرف جھکایا۔ صَوِرَ يَصْوَرُ صَوَرًا: جھکنا صفت۔ أَصْوَرُ کہتے ہیں۔ هو اصور الى كذا: وہ اپنی گردن یا اپنے چہرے کو کسی چیز کی طرف جھکائے ہوئے ہے۔ أَصَارَهُ: کو جھکانا، توڑنا۔ تَصَوَّرَ الرَّجُلُ: گرنا یا گرنے کی طرف مائل ہونا کہتے ہیں: طعنه فتصوّر: اس نے اسے خنجر مارا تو وہ گر پڑا یا گرنے لگا۔ اِنْصَارَ انصیارًا: جھکنا یا ٹوٹنا۔ الصُّوَرُ جمع صِيْرَانٌ: گردن کا پہلو۔ الصَّوَرُ (مص) میلان، جھکاؤ، کجی کہتے ہیں۔ في عنقه صَوَرٌ: اس کی گردن میں کجی ہے، یعنی گردن ٹیڑھی ہے۔ الصَّوْرَةُ: اسم مرة جھکاؤ، الأَصْوَرُ جھکاؤ دار۔

۳۔ صَارَ ۔صُوْرًا الشيءَ: کو کاٹنا، جدا جدا کر دینا، الگ الگ کر دینا۔ صَوَّرَهُ: کی تصویر بنانا، کی تصویر کھینچنا، کی شکل بنانا۔ صُوِّرَ: میرے خیال میں آیا۔ تَصَوَّرَ الشيءَ: کسی چیز کی شکل کو خیال میں لانا۔ لَهُ الشيءُ: چیز کی شکل کا سامنے آجانا۔ الصُّوْرَةُ جمع صُوَرٌ و صِوَرٌ و صُوْرٌ: شکل، حلیہ، تصویر، خیالی تصویر، ہو بہو نقشہ، خصوصیت (کہتے ہیں: صورة الامر كذا: معاملہ کی خصوصیت یوں ہے)۔ قسم، چہرہ (کہتے ہیں۔ صورة العقل كذا: عقل کی ہیئت اس طرح پر ہے)۔ (فلک) ستاروں کا ایک مجموعہ۔ الصَّيِّرُ: اچھی صورت والا کہتے ہیں۔ رجلٌ صَيِّرٌ شَيِّرٌ: اچھی شکل اور ہیئت کا مرد۔ التَّصَوُّرِيّ: تصورات وافکار پر بحث کے فن سے متعلق۔ التَّصْوِيرُ (ف ج): افراد اور اشیاء کی رنگوں میں تصویر کشی کا فن (پینٹنگ، فوٹوگرافی)۔ التصوير الشمسي: فوٹو گرافی، آلةُ التصوير: کیمرا۔ التصويرة جمع تصاوير: اسٹیچو، بت، مجسمہ۔ المُصَوِّرُ (فا): تصویر بنانے والا۔ مُصَوِّرُ الكائنات: اللہ تعالیٰ۔ المُصَوَّر و المُصَوَّر الجغرافي: اٹلس (Atlas)

۴۔ الصَّوْرُ جمع صِيْرَان و أَصْوَار: چھوٹا درخت خرما۔ جمع صِيْرَان: دریا کا کنارہ۔ الصَّارة من الجبل: پہاڑ کی چوٹی۔ صارةُ المسك: مشک کا ڈبہ۔ الصَّوْرة: سر کی کھجلی۔ الصُّوَار والصِّوَار جمع صِيْرَان: گایوں کا گلہ، خوشبو، تھوڑا مشک، مشک کا ڈبہ۔ الصُّوَّار: گایوں کا گلہ۔ الصِّيار جمع صِيْرَان: گایوں کا گلہ۔

صَوَّرَ ہ: کی شکل بنانا، کو تخلیق کرنا۔ ہ/ ہ: کی رنگین تصویر کھینچنا۔ ہ: با تصویر بنانا۔ ہ/ ہ: کی تصویر بنانا، کی فوٹو کھینچنا۔ ہ: کو پیش کرنا، کی الفاظ میں تصویر کھینچنا، کی شبیہ بنانا، کی تصویر کھینچنا۔ صُوِّرَ له: اسے دکھائی دیا، اس کے خیال میں آیا۔ تَصَوَّرَ: معنی کے لحاظ سے صَوَّرَ کا صیغہ مجہول۔ ہ: (کسی شئی) کی تصویر ذہن میں قائم کرنا، کا قیاس کرنا، اندازہ کرنا، کا تصور کرنا، کو خیال کرنا، سمجھنا، سوچنا۔ ہ/ ہ: کو سوچنا، خیال کرنا، تصور کرنا، سمجھنا۔ ہ/ ہ: ہونا (کوئی شخص یا چیز)۔ تَصَوَّرَ لَهُ: کو نظر آنا، معلوم ہونا، لگنا، دکھائی دینا۔ لا يتصوره العقلُ: جس کا تصور تک ذہن میں نہ آسکے، نا قابل یقین، نا قابل تصور، بعید از قیاس۔ صُوْرَةٌ جمع صُوَرٌ: شکل، صورت، تصویر، باتصویر نمونہ، تصویر، مثال، تمثیل مجسمہ، بت، عکس، مشابہت، نقل، نقشہ، نقش ثانی، ہو بہو نقل، نقل، کاربن کاپی، ڈپلیکیٹ (شئی) طریقہ، انداز، اسلوب۔ صُوْرَةً: رسمی طور پر۔ صُوْرَةٌ جامعةٌ: مجموعی، کلی تصویر۔ صُوَرٌ مُتَحَرِّكَةٌ: متحرک فلم۔ دار الصور المتحركة: سینما۔ صُوْرَةٌ شمسيةٌ: فوٹو گراف۔ صورةٌ طِبْقَ الأصل: صحیح نقل۔ ہو بہو تصویر۔ صُوْرَةٌ مُكَبَّرَةٌ: بڑی کی ہوئی تصویر۔ enlarged photo graph۔ في صُوْرَةِ آدميّ: انسانی شکل میں۔ بِصُوْرَةٍ جَلِيَّةٍ: ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔ بصورةٍ محسوسةٍ: محسوس طور پر، واضح طور پر، قطعی طور پر۔ بصورةٍ خاصةٍ: خاص کر، خصوصاً، بالخصوص۔ بِصُوْرَةٍ عامّةٍ: عام طور پر، عموماً، بالعموم۔ بصورةٍ مُكَبَّرَةٍ: بڑے پیمانہ پر۔ بِصُوْرَةٍ مَلْحُوظَةٍ: نمایاں طور پر، واضح طور پر۔ على صُوْرَةٍ كيميائيةٍ: کیمیاوی طور پر، کیمیاوی ذریعہ سے۔ في صُوْرَةٍ مُصَغَّرَةٍ: کم پیمانے پر۔ چھوٹے پیمانے پر۔ في صورة ما اذا: اگر اس صورت میں کہ۔ صُوَرِيّ: رسمی، سطحی، بناوٹی، مصنوعی نقلی، دھوکے میں یا مغالطے میں ڈالنے والی مغالطہ آمیز، غیر حقیقی، خیالی، فرضی، موہوم، بظاہر، دیکھنے میں۔ تصوير: رنگین تصویر، فوٹو گرافی۔ التصوير الشمسي: فوٹو گرافی، فلم یا ہوا منظر، شاٹ، ٹیک۔ آلة التصوير: کیمرا۔ تَصَوُّرٌ جمع تصورات: تخیل، قوت متخیلہ، پرواز خیال، قوت تخلیق، تصور، خیال آرائی، تخیل، خیالی پلاؤ، خیال فکر، ذہنی شکل۔ تصوري: صرف تصور میں موجود، فرضی، غیر حقیقی، موہوم۔ المذهب التصوري: مثالیت، تصوریت، اصول پرستی۔ مُصَوِّر: شکل بنانے والا، خالق۔ مُصَوِّر: فوٹو گرافر، کیمرا مین۔ مُصَوِّرُ الكائنات: خالق کائنات باری تعالیٰ۔ المصور الكهربائي للقلب (electro cardio graph)۔ مُصَوِّرَة: کیمرا۔ مُصَوَّر: با تصویر۔ جمع مُصَوَّرات: فوٹو گرافر کا اسٹوڈیو، فلمی اسٹوڈیو۔ مُصَوَّر الجغرافيا: اٹلس Atlas۔ صُوْر: طائر (جنوبی لبنان کا ایک قصبہ)۔

صوص: الصُّوص: لئيم: بخیل جو چھپا کر کھائے تاکہ مہمان اسے نہ دیکھے۔ عند العامة: عوام کے نزدیک، مرغی کا وہ چوزہ جو ابھی انڈہ سے نکلا ہو مگر اس کے لئے فصیح لفظ قوب ہے۔ صُوْصُ الباب: دروازہ کی نچلی چول جس پر دروازہ گھومتا ہے اس کے مقابل اوپر کی سطح صحیح کہلاتی ہے۔

صاع ۔صَوْعًا الحَبَّ: اناج کو صاع سے ناپنا۔ الصاع: ایک پیمانہ جمع أصواع و أَصْوُعٌ و أَصْؤُعٌ و صُوْعٌ و صِيْعَان الصَّوَعُ و الصُّوْعُ جمع أَصْوَاع و أَصْوُع و أَسْؤُعٌ و صُوْعٌ و صِيْعَانٌ: ایک پیمانہ۔ صِيعان: پانی پینے کا پیالہ۔

۲۔ صاع ۔صَوْعًا القومَ: لوگوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ الشيءَ: کو موڑنا، بکھیرنا۔ القوم: لوگوں کے پاس اطراف سے آنا۔ ت النحلُ: شہد کی مکھیوں کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ ۔ الرجلَ: کو خوف دلانا، گھبرانا۔ تَصَوَّعَ: متفرق ہونا، دور ہونا، پھیلنا۔ الشعرُ: بالوں کا چرنا، سکڑنا، پراگندہ ہونا۔

۳۔ صَوَّعَ موضعًا للقطن: روئی دھننے کے لئے جگہ تیار کرنا۔ الصاع: وہ صاف زمین جس میں کھیلا جائے۔ الصاعة: روئی یا اون دھننے کے لئے تیار کی ہوئی زمین کہتے ہیں۔ اتخذ لصوفك صاعةً: اون دھننے کے لئے جگہ تیار کر۔

۴۔ صَوَّعَ ت الريحُ النباتَ: ہوا کا پودوں کو ہلانا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الطائرُ برأسه: پرندہ کا سر کو ہلانا۔ الفرسُ: گھوڑے کا سرکشی کرنا کہتے ہیں۔ صَوَّع به فرسُهُ: سے گھوڑے کا سرکشی کرنا اور قابو میں نہ آنا۔ تَصَوَّع النباتُ: پودے کا ہلنا۔

۵۔ صَوَّعَ الشيءَ: چیز کو گول اور تیز نوک والی بنانا۔

۶۔ انْصَاعَ انصياعًا: جلد واپس آنا، گزرنا۔

۷۔ الصَّاع: کھیلنے کا ڈنڈا (صولجان) سینے کا وسط، سینہ۔ والصَّاعَة: پست زمین۔

انْصَاعَ: ناراض ہو کر اٹھ جانا۔ --ل: کا حکم ماننا، کے حکم کی تعمیل کرنا، کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کے آگے دب جانا، کی اطاعت اختیار کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ صَاع جمع أَصْوُع و أَصْوَاع و صِيعان: ایک مکعب پیمانہ۔ صَاعًا بِصَاعٍ: اوے کا بدلہ، ترکی بترکی جواب۔ ردّله الصَّاعَ صَاعَين او كال له صاعًا بصاعين: سے دوہرا انتقام لینا، کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ صاعة: دیوان خانہ، بیٹھک، کمرہ استقبال۔

صاغ: ۱۔ صَاغَ ۔صَوْغًا الماءُ: پانی کا زمین میں بیٹھ جانا۔

۲۔ صَاغَ ۔صَوْغًا الشيءَ: چیز کو درست نمونہ پر تیار کرنا۔ الكلمةَ: ایک کلمہ سے خاص وزن پر دوسرا کلمہ بنانا کہتے ہیں۔ صَاغَ الكلامَ: اس نے کلام گھڑ لیا۔ اللّٰهُ فلانًا صِيغَةً حَسَنَةً: فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے پیدا کیا کہتے ہیں۔ صِيغَ على صِبغَتِهَ: وہ اسکی طبیعت پر پیدا کیا گیا۔ ــ صِيغَةً و صِيَاغَةً و صَيغُوغَةً الشيءَ: کو پگھلانا، ڈھالنا۔ انْصَاغ انْصِيَاغًا: پگھلنا، ڈھلنا۔ الصَّوْغُ: (س) کہتے ہیں۔ هو صوغُ اخيه وہ اپنے بھائی کے ساتھ پیدا ہوا یا اس کے بعد پیدا ہوا اور ان کے درمیان کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ هُما صَوْغَان وہ پیدائش وغیرہ میں ایک ہی طرح کے ہیں۔ هذا صَوْغُ هذا: یہ اس جیسا ہے۔ الصَّوْغَة: اسم المرۃ کہتے ہیں۔ هو صَوْغَةُ اخيه: وہ اپنے بھائی کے ساتھ پیدا ہوا یا اس کے بعد اور دونوں کے درمیان کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ الصَّائِغ (فا) صَاغَةٌ و صُيَّاغ و صُوَّاغ: زرگر، سنار کہتے ہیں۔ هو من صاغَةِ الكلام: وہ خوبصورت انداز سے لکھنے والا ہے۔ الصِيغَة جمع صِيَغ: نوع، اصل کہتے ہیں۔ هو من صيغةٍ كَرِيمَةٍ: وہ شریف الاصل ہے (کہتے ہیں۔ صيغةُ الامر كذا كذا: امر کی شکل اس طرح اور اس طرح ہے) تصویر [illegible] متعدد [illegible] سونے چاندی وغیرہ کے زیورات (عام زبان میں) الصِّيَاغة: زرگری، سنار کا پیشہ۔ الصَّوَّاغ والصَّيَّاغ والصَّيِّغ: جھوٹا، نمک مرچ لگا کر بات کرنے والا۔ المَصَاغ: ڈھالے ہوئے زیورات۔

۳۔ صَاغَ ۔صَوْغًا له الشرابُ: کے لئے مشروب کا خوشگوار ہونا صحت بخش ہونا۔

صَاغَ ۔صَوْغًا و صِيَاغَةً ہ: کو بنانا، ڈھالنا، تخلیق کرنا۔ (قاعدہ، قانون) بنانا، وضع کرنا (لفظ) گھڑنا، وضع کرنا (جھوٹ) گھڑنا، تراشنا، ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ صَاغَ الذهب والفضة: زرگری کرنا۔ صَوْغ: بنانا، ڈھالنا، تخلیق کرنا۔ صيغة: بنانا، ڈھالنا، تخلیق کرنا۔ جمع صِيَغ: شکل، بیرونی شکل، انتخاب الفاظ، اظہار مفہوم کے لئے الفاظ کا استعمال، متن) روایت، بیان (مراسلہ معاہدہ وغیرہ کا) فارمولا، زیورات، سونے چاندی کے زیور، شکل (گرامر میں) صيغة الفاعل: فعل معروف۔ صيغة المفعول: فعل مجہول۔ بصيغةٍ حاسِمَة: فیصلہ کن شکل میں، غیر مبہم الفاظ میں۔ صِيَاغة: ترکیب دینا، سنوارنا، بنانا، مسودہ تیار کرنا، لفظوں میں ادا کرنا، بنانا، تشکیل، ڈھالنا، زرگری۔ مَصَاغ: زیورات، جواہرات، سونے چاندی کی اشیاء۔ صائِغ جمع صُيَّاغ و صاغة و صُوَّاع: زرگر، سنار، جوہری۔ مَصُوغات: سونے چاندی کے زیورات، جواہرات، زیورات۔ صاغ: باترتیب، ٹھیک، مناسب، صحیح سالم، اچھی حالت میں، معمول کے مطابق، باقاعدہ، فوج اور پولیس میں کیپٹن اور میجر کا درمیانی) عہدہ، بحریہ میں لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ کمانڈر کے درمیان کا عہدہ۔ عُمْلَةُ صاغ: معیاری نظام زر۔ عِرش صاغ: معیاری۔ غِرش (سکہ مصری) صاعقول اغاسي: (ترکی لفظ) مصر میں کیپٹن اور میجر کے درمیان کا فوجی عہدہ۔

صاف: ۱۔ صَافَ ۔صَوْفًا عن كذا: سے انحراف کرنا۔ السهمُ عن الهدف: تیر کا نشانہ سے ہٹ جانا۔ أصافَ ہُ: کو جھکانا، مائل کرنا۔

۲۔ صَافَ ۔صُوْفًا و صَوْفًا و صَوِف يَصْوَف صَوَفًا الكبشُ: مینڈھے کا بہت اون والا ہونا صفت أَصْوَف۔ الصُّوف جمع اصْوَاف للشاء: اون۔ اس کے ایک قطعہ کو صُوفة: کہتے ہیں۔ اخذه بصوف رقبته اس نے اسے زبردستی پکڑ لیا۔ اعطاه اياه بصوف رقبته: اس نے اس کو مفت دیا یا سارا دیدیا۔ اس سے مثل ہے۔ خَرْقَاءِ وجدت صُوفًا: بے وقوف عورت کو اون مل گئی۔ مطلب یہ کہ بیوقوف کو مال مل جائے تو وہ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ عوام کہتے ہیں۔ صوفته حمراء. والزامات کا نشانہ ہے، اس کی طرف فوراً بدگمانی کا رخ ہو جاتا ہے۔ الصَّوَّاف: اون فروش۔ الصاف والصافِيّ والأَصْوَف والصائف: اونی اون دار۔ الصَّوْفان م صَوفانة: جس پر بہت اون ہو۔ الصَوف و الصُوفانی: جس پر بہت اون ہو۔ جُبّةٌ صَيِّفةٌ: بہت اون والا جُبّہ۔

۳۔ صَوَّفَ ہُ: کو صوفی بنانا۔ تَصَوَّف: صوفی ہو جانا، صوفیوں جیسے اخلاق اختیار کرنا۔ الصُّوفِيَّة: عبادت گزاروں کی جماعت۔ واحد الصُّوفيّ: مسلمانوں کے نزدیک صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ سے متعلق رہے جس میں اعلیٰ درجہ کا خلوص اور حقائق کے ادراک کی استعداد ہو۔

۴۔ الصُّوفان واحد صوفانة: ایک نرم خشک چیز جو لکڑی کے اندر ہوتی ہے اور جلد آگ پکڑتی ہے۔ فُطْرُ الصُّوفان: سماروخ جو درخت کے تنے پر اگتی ہے اور اس سے صوفان نکالا جاتا ہے۔

صُوْف جمع أَصْواف اون۔ صوفي: اون کا۔ اونی، صوفی۔ صوفية: صوفی طریقہ زندگی۔ الصُّوفية: اسلامی تصوف، روح اور خالق کے ارتباط کا عقیدہ۔ صُوفان: آگ پکڑنے والی کوئی سوکھی چیز۔ صوفانة: آگ پکڑنے والی کوئی سوکھی چیز۔ صواف: اون کا تاجر۔ التصوف: صوفیہ، اسلامی تصوف، روح اور خالق کے ارتباط کا عقیدہ، صوفی طرز زندگی۔ المتصوفة: صوفی لوگ، عارفین باللہ۔ صوفيا: بلغاریہ کا دارالحکومت۔

صاق: صَاقَ الدابةَ: جانور ہانکنا۔ الصاق والصُّوق والصَّوِيق: دیکھئے الساق والسوق والسويق: (ساق، پنڈلی، تنہ) سَوْق: ہانکنا۔ سويق: ستو)

صاك: صَاكَ ۔صَوْكًا به الزعفرانُ والمسكُ ونحوهما: سے زعفران یا مشک وغیرہ کا چپکنا۔ تَصَوَّكَ في رجيعه و برجيعه: اپنے گوبر سے لتھڑنا۔

صال: ۱۔ صَالَ ۔صَوْلاً و صَوْلةً عليه: پر کود پڑنا۔ صَوْلاً و صِيَالاً و صَالاً و صُؤُولاً و صَيَلانًا و مَصَالَةً عليه: پر حملہ کر کے مغلوب کرنا۔ صَاوَلَ مُصَاوَلَةً و صِيَالاً و صِيَالَةً ہُ: ایک کا دوسرے پر کود پڑنا، ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ تَصَاوَلا: ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا، کود پڑنا۔ الصَّوْلَة: سطوت، غلبہ، حملہ کہتے ہیں۔ لقيتُهُ اوّلَ صَوْلةٍ: میں اسے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پہلی دفعہ ملا۔ الصَؤُول من الرجال: لوگوں کو مار پیٹ کرنے والا، ان سے گستاخی کرنے والا۔
۲۔ صِیْلَ لَهُ الامرُ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لئے کوئی معاملہ مقدر کیا جانا۔
۳۔ صَوَّلَ البیْدَرَ: کھلیان کے اطراف میں جھاڑو دینا۔ الشیء: کو دھونا، جیسے چونے کو دھونا، پانی میں ڈال کر صاف کرنا، جیسے گیہوں، کو صاف کرنا۔ صُوْلَة الحِنطة: پانی میں صاف کیا ہوا گیہوں۔ الصُوَالة: کھلیان کے اطراف کا کوڑا کرکٹ، کوڑا کرکٹ جو غلہ کے دھونے سے نکلتا ہے۔ المِصْوَل جمع مَصَاوِل: برتن جس میں کوئی چیز صاف کرنے کے لئے بھگوئی جائے۔ المِصْوَلَة: خرمن صاف کرنے کی جھاڑو۔
○ صَالَ ـ صَوْلاً و صَوْلَةً و صِيَالاً علی: پر کودنا، چھلانگ لگانا، پر حملہ کرنا۔ صَوَّلَ ہ: (سونا، گیہوں وغیرہ) کو پانی سے دھونا۔ صَاوَلَ ہٗ: سے مقابلہ کرنا۔ صَوْلَة جمع صَوْلات: حملہ، طاقت، ظلم، جور و استبداد، ظلم و جور، جور و جبر۔ صَوْل: (ترکی میں) سارجنٹ، میجر (انگریزی میں) ٹیکنیکل سارجنٹ۔ صَول تعیلم: ماسٹر سارجنٹ۔ صول تعیین: کوارٹر ماسٹر سارجنٹ۔ صَوْلَجَان جمع صَوَالِجة: خمیدہ سرے والا عصا، پولو موگرا، عصائے شاہی، عصائے حکومت۔
صام: ۱۔ صَامَ ـ صَوْمًا و صِيَامًا: روزہ رکھنا، صائم روزہ دار جمع صائمون و صُوَّام و صُوَّم و صُيَّم و صِيام۔ صَامَ الشهرَ: مہینہ میں روزے رکھنا۔ صَوَّمَہٗ: کو روزہ رکھوانا۔ اصْطَام: روزہ رکھنا۔ الصَوْم: (مص) جمع أصْوَام: کام سے رکنا، مقررہ اوقات میں کھانے پینے سے رکے رہنا، روزہ دار، مفرد و جمع کے لئے یکساں کہتے ہیں۔ هُوَ صَوْمٌ وهِيَ صَوْم وهم صَوْم: وہ مرد روزہ دار ہے۔ وہ عورت روزہ دار ہے وہ لوگ روزہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ عند المسيحين: (عیسائیوں میں) آدھی رات سے دوپہر تک کھانا ترک کرنا، انکا یہ کہنا کہ النصراني في صومه کا معنی ہے نصرانی اس کی بیعت میں ہے۔ شهر الصوم: رمضان کا مہینہ۔ الصَوَّام من الاراضي: خشک بے آب زمین۔ الصَوْمَان جمع صَيَامَى: روزہ دار۔ الصَائِم: کھانے پینے سے رکا رہنے والا کہتے ہیں۔ يَوْمٌ صائِمٌ: دن جس میں روزہ رکھا جائے۔ مَاءٌ صَائِمٌ: ٹھہرا ہوا، رکا ہوا پانی۔ الصَائمة من الخيل: بغیر چارہ کے کھڑا ہوا گھوڑا۔ الصَوَّام: بہت روزے رکھنے والا کہتے ہیں۔ هو صَوَّامٌ قَوَّامٌ: وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو کھڑا رہتا ہے۔
۲۔ صَامَ ـ صَوْمًا و صِيَامًا النهارُ: دوپہر کا وقت ہونا۔ ـــ ت الشمسُ: سورج کا نصف النہار پر ہونا۔ ـــ ت الريحُ: ہوا کا ٹھہرنا۔ الصَائِمةُ من السَكاكين: کند چھری۔ ـــ من البكرات: نہ پھرنے والی چرخی۔ مَصَام و مَصَامَةُ الفرس: گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ کہتے ہیں۔ جئتُهُ والشمسُ في مَصَامِها: میں اس کے پاس آیا تو سورج نصف النہار پر تھا۔
۳۔ صَامَ ـ صَوْمًا و صِيَامًا و اصْطَامَ النعامُ: شتر مرغ کا بیٹ کرنا۔ صومُ النعامِ: شتر مرغ کی بیٹ
۴۔ صَامَ ـ صَوْمًا و صِيَامًا واصطام مِنيتهُ: موت چکھنا۔
۵۔ صَوْمَعَ الشيءَ: کو جمع کرنا۔
۶۔ صَوْمَعَ البناءَ: عمارت بلند کرنا۔ الصَوْمَع جمع صَوَامِع: پہاڑ یا بلند جگہ جس پر راہب و عبادت گزار تنہائی کی خاطر رہتا ہو۔ راہب کی کٹی، گرجا۔ الصَوْمَعَة جمع صَوَامِع بمعنی الصَومَع، پہاڑ کی چوٹی۔ (ح) عقاب۔
۷۔ الصَوْمَعَة جمع صَوَامع: ایک قسم کی ٹوپی۔
۸۔ صَوْمَلَ الرجُلُ: بھوک سے کھال کا خشک ہو جانا۔
○ صَامَ ـ صَوْمًا و صِيَاما عن: سے باز رہنا، پرہیز کرنا، ـ کھانے پینے اور مجامعت سے پرہیز کرنا، روزہ رکھنا۔ صوم: باز رہنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، روزہ رکھنا، روزہ۔ الصوم: ماہ رمضان میں روزے رکھنا۔ الصوم الكبير: بڑا روزہ، ایسٹر کا چلہ۔ عيدُ صومِ الغُفران: یوم کفارہ (عیسائیت میں) صِيام: روزہ رکھنا۔ روزہ۔ صَائِم جمع صائمون و صُوَّم و صِيَّم و صِيَام: روزہ دار۔ الصُومال: صومالیہ۔ صُومالی: صومالیہ کا باشندہ، صومالیہ کا، صومالی۔
صان: ۱۔ صَانَ ـ صَوْنا و صِيَانا وصِيانةً و اصْطَانَ اصْطِيَانًا ہٗ: کی حفاظت کرنا۔ صفت مفعولی۔ مَصُون و مَصْؤُون (مَصؤُون نادر الاستعمال ہے) ـــ الثوبَ او العِرضَ: کپڑے یا عزت کو داغدار ہونے سے بچانا۔ تَصَوَّنَ ہٗ: کو بچانے کا دکھاوا کرنا۔ وتصَاون من العيب: خود کو عیب سے بچانا۔ الصَوَان والصِوَان والصُوَان والصِيَان والصُيَان والصَيَان جمع أصْوِنَة: الماری، صندوق۔ المَصَان و المِصْوَان: کمان وغیرہ کا غلاف۔ التَصْوِنَة: [illegible]

(عام زبان میں)
۲۔ الصَوَّانَة جمع صَوَّان (ط ا): چقماق کا پتھر، ذبر، چوتڑ۔
○ صَانَ ـ صَوْنًا و صِيَانةً ہ: کو محفوظ رکھنا، کا تحفظ کرنا، کو بچانا، کو بچائے رکھنا، کو رکھنا، رہنے دینا، کو برقرار رکھنا، کو چالو رکھنا۔ ہ / ہ / عن: کو سے محفوظ رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو سے بچانا۔ ہ / ہ / عن: کا کے خلاف دفاع کرنا۔ تَصَوَّنَ: اپنی عزت برقرار رکھنا، پاکدامن رہنا (خاتون) کا باعصمت رہنا۔ اپنے آپ کو الگ رکھنا، تنہائی میں رکھنا، اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ صون: پاکدامنی، عزت مندی، دفاع، حفاظت، محفوظ رکھنا، برقرار رکھنا۔ صَوَّان واحد صَوَّانة: چقماق (granite) ایک عمارتی پتھر۔ أدَوَاتٌ صَوَّانية: چقماق کے اوزار۔
صوّ: الصَوّ: خالی کہتے ہیں: اناءٌ صَوٌّ: خالی برتن۔ الصُوَّة جمع صُوًى: وجمع الجمع أصْوَاء: آواز بازگشت، ٹیلہ، پہاڑی، نشان راہ کا پتھر۔ ـ البحرية: (سمندر میں راستہ بنانے یا اس کے خطرناک حصوں کی اطلاع دینے والی وہ چیز جو سمندر میں تیرتی رہتی ہے، تیرونا، پیراک، پیپا۔ الصُوَّة البحرية: کا دوسرا نام۔ عَوَّامة اور شَمَنْدُورَة: ہے۔ الصُوَى والأصْوَاء: قبریں۔
○ صُوَّة جمع صُوًى: نشان راہ کا پتھر۔ صَوَى ـ صُوِيًّا وَصَوِيَ ـ صَوًى و صَوًّى: بالکل سوکھ جانا، مرجھانا، مرجھا جانا۔ صَوَى: آہستہ آہستہ نکلنا، چیں چیں کرنا، چوں چوں کرنا، چہچہانا۔
صوی: صَوَى ـ صُوِيًّا و صَوَّى تصوية و أصوَى اصواءً النخلُ: درخت کھجور کا خشک ہو جانا، صفت: صَوِيّ و صاوٍ۔ ـ الضرعُ: تھن کا خشک ہو جانا صفت صاوٍ۔ صَوِيَ ـ صَوًى النخل: کھجور کے درخت کا خشک ہو جانا صفت صَوِيٌّ و صَاوٍ۔ الضرع تھن کا خشک ہو جانا صفت صَاوٍ۔ الرجُلُ: قوی ہونا۔ ابو صُوَيّ او الصَرَّارة (ح) ایک پرندہ جس کی آواز سے سانپ ڈرتے ہیں۔
صاب: ۱۔ صَابَ ـ صَيْبًا: درست ہونا صفت صائب۔ ـ ہٗ السهمُ: کو تیر لگنا۔ سَهْمٌ صَيُوبٌ جمع صُيُوب: نشانہ پر لگنے والا تیر۔
۲۔ الصُيَّاب والصُيَاب و الصُيَابَة: خالص، ہر عمدہ شے کہتے ہیں۔ هو من صُيَّابهم: یعنی وہ ان کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ الصُيَّبة: بمعنی الصُيَّاب: (کہتے ہیں۔ هو من صُيَّابتهم: وہ ان کے بہترین

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لوگوں میں سے ہے)۔سردار۔ هو صُيَّابَةُ قومه وہ
اپنی قوم کا سردار ہے۔ صُيَّابَة القوم: قوم کی جماعت

صاح: ا۔ صَاحَ ـِ صَيْحًا و صَيْحَةً و صِيَاحًا و صَيَحَانًا زور سے چیخنا۔ به کو پکارنا، آواز دینا۔ ـــ عليه کو ڈانٹنا۔ ـــ ت عصافيرُ بطنه: بھوکا ہونا۔ صِيْحَ بهم: وہ ڈر گئے۔ فيهم: ہلاک ہو گئے۔ صَيَّحَ: بہت چیخنا۔ صَايَحَ القومُ: ایک دوسرے کو پکارنا۔ صَايَحَ به: کو پکارنا، آواز دینا۔ تَصَايَحَ القومُ لوگوں کا ایک دوسرے کو پکارنا۔ الصَّيْحُ: (مص) کہتے ہیں۔ غَضِبَ من غير صيح و لا نفر وہ یونہی غضبناک ہوا۔ الصَّيْحَة: صاح کا اسم مرة، عذاب الٰہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا، اچانک غارت۔ الصَّائِحَة: صَائِح کا مونث نیز صيحة المناحة تجہیز وتکفین پر عورتوں کا بین، ماتم، گریہ وزاری۔ الصَّيَّاح: بہت چیخنے والا۔

۲۔ صَاحَ ـِ صَيْحًا و صَيْحَةً و صِيَاحًا و صَيَحَانًا العنقودُ: تر خوشے کا بڑھنا۔

۳۔ صَيَّحَ ت الريحُ او الشمسُ البقلَ: ہوا یا سورج کا سبزی کو سکھا دینا۔ تَصَيَّحَ البقلُ: سبزی کے اوپر کے حصہ کا خشک ہو جانا۔

۴۔ صَيَّحَ الشيءَ: کو توڑنا، پھاڑنا۔ تَصَيَّحَ: پھٹنا، چیخنا۔ تَصَايَحَ جفنُ السيف: تلوار کی نیام کا پھٹ جانا، چیخ جانا۔ انْصَاحَ: پھٹنا، چیخنا۔ الفجرُ و البرقُ: صبح اور بجلی کا ظاہر ہونا۔ ـــ ت الأرضُ: زمین کے کچھ حصے کا روئیدگی سے ڈھک جانا۔

○ صَاحَ ـِ صَيْحًا و صِيَاحًا: چلانا، چیخنا، بلبلا اٹھنا، چیخ مارنا، ککڑوں کوں کرنا، بانگ دینا۔ صاحَ صَيْحَةً: چیخ مارنا۔ ب: کو پکارنا۔ ـــ على او في: سے چلا کر کہنا۔ صَيَّحَ: زور سے چلانا، دھاڑنا، گرجنا، چیخنا، چلانا۔ تَصَايَحَ: ایک دوسرے کو پکارنا، چلانا، شور مچانا، چیخ پکار کرنا، شور وغل کرنا۔ صَيْحٌ: چیخنا، چلانا، شور وغوغا، چیخ پکار۔ صَيْحَةٌ جمع صَيْحَات: چیخنا، چلانا، شور وغوغا۔ صيحة الحرب: جنگی چیخ و پکار۔ أَرْسَلَ صَيْحَاتٍ: چیخیں مارنا۔ صَاحَ صيحةً: چیخ مارنا۔ على صَيْحَةٍ: جہاں تک چیخ و پکار پہنچ سکے۔ ذَهَبَ صيحةً في وادٍ: صدا بصحرا ہونا۔ صِيَاح: چیخنا، چلانا، شور وغل، پرندے کی چیخ۔ صَيَّاح: چیخنے والا، اونچی آواز والا، شور مچانے والا، پرخروش، گلا پھاڑ پھاڑ کر کہنے والا۔ تَصَايُح: شور مچانا، غور شور و غل، گرج، چیخ، چیخ و پکار۔

صاد: ا۔ صَادَ ـِ صَيْدًا الطيرَ: پرندے کا شکار کرنا۔ صفت صائد۔ فُلانًا: کے لئے شکار کرنا۔ ـــ المكانَ: جگہ میں شکار کرنا۔ أَصَادَهُ: کو شکار پر اکسانا۔ تَصَيَّدَ الطيرَ: پرندے کا شکار کرنا۔ اصْطَادَ الطيرَ: پرندے کا شکار کرنا۔ المكانَ: جگہ میں شکار کرنا۔ الصَّيْدُ: (مص) شکار۔ الصَّيَّاد: شکاری۔ الصَّيُودُ جمع صِيْد و صُيُود: شکاری کتے ہیں۔ كلبٌ صَيُود و صقرٌ صَيُود: شکاری کتا اور شکاری باز یا شکرا یا شاہین۔ ـــ من النساء: اپنے خاوند سے حیلے بہانے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے والی عورت۔ المَصِيْد: پکڑا ہوا شکار۔ المِصْيَد و المِصْيَدَة و المَصْيَدَة و المَصِيْدَة جمع مَصَائِد: جال، گڑھا پھندا، دام، شکار کرنے کی کوئی چیز یا سامان۔ المَصَاد و المُصْطَاد و المُتَصَيَّد: جائے شکار، شکار گاہ۔

۲۔ صَادَ ـَ صَيَدًا زيدًا: زید کو ٹیڑھی گردن والا بنانا۔ صَيِدَ يَصْيَدُ صَيَدًا: ٹیڑھی گردن والا ہونا۔ أَصَادَ البعيرَ: اونٹ کو اذیت دینا، اس کی گردن کی کجی کا علاج کرنا (ضد) الأَصْيَد م صَيْدَاء جمع صِيْد: ٹیڑھی گردن والا اونٹ، تکبر سے سر کو بلند کرنے والا۔ بادشاہ (ح) شیر۔ الصَّاد: (طب) اونٹ کی ایک بیماری جس کی وجہ سے اس کی ناک سے ریزش بہتی رہتی ہے اور وہ اپنا سر اونچا رکھتا ہے۔ شیر۔ بعيرٌ صَاد: بیماری سے سر اونچا رکھنے والا اونٹ۔ ناقةٌ صَارَةٌ: بیماری سے سر اونچا رکھنے والی اونٹنی۔ الصَّيْد: (مص) و الصِّيْد: اونٹ کی مذکورہ بالا بیماری۔ الصَّيْدَاء الأَصْيَد کا مونث۔ الصَّيَّاد (ح) شیر۔

۳۔ الصَّاد: حرف تہجی۔ جمع صِيْدَان: پیتل، تانبا۔ الصَّيْدَاءُ: کنکر، پتھری۔ ارضٌ صَيْدَاء: سخت زمین۔ الصَّيْدُود من النساء: بد خلق عورت۔ الصَّيْدَان: سونا، تانبا۔ صَيْدَانُ الحصى: چھوٹے کنکر۔ الصَّيْدَانَة: بھوت۔ ـــ من النساء: بد خلق عورت، بہت باتونی عورت۔

۴۔ الصَّيْدَلَة: دوا فروشی۔ الصَّيْدَلي و الصَّيْدَلاني: دوا فروش۔ الصَّيْدَلِيَّة: دواؤں کی دوکان۔

۵۔ الصَّيْدَن: مضبوط عمارت، چاندی کی اینٹ، تنگ چادر (ح) بجو (ح) لومڑی، بادشاہ، عطر فروش، زمین کے اندر گھر بنانے اور اس کو لوگوں سے چھپا کر رکھنے والا ایک جانور۔ الصَّيْدَنَانِي (ح) لومڑی اور مذکورہ جانور کی مضبوط عمارت۔

○ صاد۔ صَيْدًا ہ: کو شکار کرنا، مچھلی پکڑنا۔ تَصَيَّدَ ہ: کو شکار کرنا، پکڑنا۔ اصطاد: بمعنی صَادَ۔ اصطاد في الماء العَكِر: گندے پانی میں مچھلیاں پکڑنا۔ صيد: شکار کرنا، شکار، مچھلی پکڑنا۔ صيدُ السمك: مچھلی پکڑنا۔ من صيد خَيَالِه: اس کے خواب وخیال میں، اس کے تصور کی پیداوار۔ صَيَّاد جمع صيادون: شکاری مچھلی پکڑنے والا۔ صياد السمك: مچھیرا، مچھلی پکڑنے والا، رام چڑیا۔ صَيْدَا: لبنان کا ایک شہر۔ مَصْيَدَة جمع مَصَايِد: ماہی گاہ۔ صَيْدَلَة عطار کا پیشہ، دوا سازی، عطاری، علم دوا سازی۔ صَيْدَلي جمع صَيَادِلَة: دوا فروش، دوا ساز۔ عطار۔ صَيْدَلاني: دوا ساز، دوا فروش۔ عطار۔ صَيْدَلِيَّة: دواؤں کی دکان، عطار خانہ۔

صار: ا۔ صَارَ ـِ صَيْرًا و صَيْرُورَةً و مَصِيرًا: واپس ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا جیسے صار زيدٌ غنيًا: زید مفلسی کی حالت سے تمول کی حالت میں منتقل ہو گیا یعنی امیر ہو گیا، منتقل ہونا۔ الى كذا او الى فلان: کسی چیز یا شخص تک پہنچنا (یہ افعال ناقصہ میں سے ہے) صَيَّرَ تَصْيِيرًا و أَصَارَ إِصَارَةً ہ: کو ایک حالت یا شکل سے دوسری حالت یا شکل میں بدل دینا۔ تَصَيَّرَهُ: سے مشابہ ہونا۔ الصَّيْر: (مص) کام کا انجام ونتیجہ۔ الصِّيْر: بمعنی الصَّيْر چیز کا کنارہ یا طرف، جب کوئی شخص کام ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں۔ فلانٌ على صِيرِ الأمر ۔ الصَّائِرة: خشک گھاس۔ الصَّيُّور و الصَّيُّورَة: کام کا انجام ونتیجہ۔ المَصِير (مص) جمع مَصَايِر: کام کا انجام ونتیجہ، وہ جگہ جہاں پانی پہنچتا ہے۔

۲۔ صَارَ ـُ صَيْرًا ہُ: کو کاٹنا۔ الشيءَ: کو روکنا۔ الصِّير: دروازہ کی دراڑ۔ الصِّيَار: گایوں کا گلہ۔ الصِّيَارَة و الصِّيرَة جمع صِيَر و صِيَر: گائے یا بکریوں کا باڑہ۔ الصَّيِّر: قبر۔

۳۔ الصِّيْر: چھوٹی نمکین مچھلیاں، یہودیوں کا پادری۔ الصِّيَار: چنگ کی آواز۔ الصَّيِّر: جماعت۔ الصَّيُّور: عقل ورائے۔

○ صَارَ ـِ صَيْرًا و صَيْرُورَةً و مَصِيرًا ہ: کوئی چیز ہو جانا۔ (مضارع کے ساتھ)، کو شروع کرنا، تک جانا، کسی ایسی صورت حال میں ہونا جہاں کسی ایسے نقطہ تک پہنچنا جہاں، واقع ہونا، ہونا، عمل میں آنا۔ ـــ لِ کے حصہ میں آنا، پر پڑنا، واقع ہونا۔ ـــ الى او عند: کے پاس جانا۔ الى: کسی جگہ پہنچنا۔ الى: پر ختم ہونا۔ الى: کام انجام ہونا، نتیجہ ہونا۔ صار به الى کو تک لے جانا۔ يُصَارُ إلى: تک جانا، کوئی آخر کار کے ساتھ، ختم ہوگا۔ صَيَّرَهُ ہ: کو کچھ بننے پر اکسانا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کو میں بدلنا۔ صِیر: دروازہ کی دراڑ۔ چھوٹی نمکین مچھلی۔ صَیرُورَۃ: ہونا، ترقی یافتہ حالت، نتیجہ۔ مَصِیر: ترقی یافتہ حالت، (کام کی) رفتار جمع مَصَایِر: پہنچنے کی جگہ، نتیجہ، تقدیر، قسمت۔ نصیب نصیبہ، مقدر، انجام، حشر، زندگی۔ تقریر المصیر: حق خود اختیاری۔ مصیرُ کلِّ حیٍّ: ہر زندہ کا طریقہ یا دستور۔

صیص: الصِیْصَۃ و الصِیْصِیَۃ جمع الصَیاصِی: جولاہے کا کوچ جس سے وہ تانا بانا درست کرتا ہے۔ بُنے کی سلائی، مرغ کا خار، ہرن اور گائے کا سینگ، کھجور توڑنے کا دستہ، قلعہ۔ گڑھی اور پناہ لینے کی جگہ۔

صاع: صَاعَ ـِ صَیْعًا و أَصَاعَ الغنمَ: بکریوں کو متفرق کرنا۔ القومَ: ایک دوسرے کے خلاف اکسانا۔ تَصَیَّعَ الماءُ: پانی کا اضطراب کرنا، جوش مارنا۔ انصاعَ الرجلُ: تیزی سے واپس لوٹنا۔ — الطیرُ: پرندے کا فضا میں چڑھنا۔

صاف: ۱۔ صَافَ ـِ صَیْفًا و تَصَیَّفَ بالمکان: کسی جگہ موسم گرما میں اقامت کرنا۔ — واصْیَفَ المکانَ: کسی جگہ موسم گرما گزارنا۔ صِیْفَ المکانُ او الرجلُ: کسی جگہ یا آدمی پر موسم گرما کی بارش ہونا۔ صفت مفعولی مَصِیْفٌ و مَصْیُوفٌ صَیَّفَ بالمکان: کسی جگہ موسم گرما میں قیام کرنا۔ المکانَ: کسی جگہ موسم گرما میں رہائش پذیر ہونا کہتے ہیں۔ ہذا الطعام یُصَیِّفُنِی: یہ کھانا مجھے موسم گرما کے لئے کافی ہے۔ صُیِّفَ المکانُ او الرجلُ: کسی جگہ یا آدمی پر موسم گرما کی بارش ہونا، صفت مفعولی۔ مُصَیَّف۔ صَایَفَ مصایفۃً و صِیافًا: سے موسم گرما کے لئے معاملہ کرنا۔ (جیسے الشہر سے مُشاہرۃ) أصافَ اصافۃَ القومُ: موسم گرما میں داخل ہونا۔ ت الدابّۃَ: جانور کا موسم گرما میں بچے دینا۔ اصْطَافَ اصْطِیَافًا بالمکان: کسی جگہ موسم گرما میں اقامت کرنا۔ الصَیْف جمع أَصْیَاف: موسم گرما۔ ۲۱ جون سے ۲۱ اپریل تک کا چار موسموں میں سے ایک موسم (شام، لبنان، عراق، اردن) الصَیْفَۃ جمع صِیَف: موسم گرما، یہ صیف سے اخص ہے۔ الصَیْفِیّ: موسم گرما میں پیدا ہونے والا، موسم گرما میں اگنے والی گھاس (ز) موسم گرما میں چنے، کاٹے جانے والے اکٹھے کئے جانے اور توڑے جانے والے پھل جیسے انجیر، انگور، سیب، ناشپاتی وغیرہ۔ والصَیِّف: موسم گرما میں اگنے والی گھاس۔ والصَیِّفَۃ: موسم گرما کی بارش کہتے ہیں۔ أصابتنا صَیِّفَۃٌ غزیرۃٌ: موسم گرما میں ہم پر کثرت سے بارش ہوئی۔ الصَّاف: گرم۔ الصَائِف: گرم کہتے ہیں۔ صَیْفٌ صائفٌ: بہت گرم موسم گرما (جیسے کہا جاتا ہے۔ لیلٌ لائلٌ: تاریک رات، اندھیری رات)۔ الصائفۃ جمع صَوَائِف۔ الصائف کا مونث، موسم گرما کا وقت، گرمی کے موسم کی جنگ۔ صائفۃُ القوم: قوم کی موسم گرما کی خوراک۔ المَصِیف و المُتَصَیَّف و المُصْطَاف: موسم گرما گزارنے کی جگہ۔ ارضٌ مِصْیَاف جمع مَصَایِیف: وہ زمین جس کی سبزی دیر سے نکلے اور وہاں موسم گرما کی بارش بکثرت برسے۔ المَصَایِیف: موسم گرما میں پیدا ہونے والے بچے۔

۲۔ صَافَ ـِ صَیفًا و صُیُوفَۃً السہمُ عن الہدفِ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ — عنّی وجہُہُ: اس کا چہرہ میری طرف سے مڑ گیا۔ أَصَافَ اصافۃً اللّٰہُ عنہ الشرَّ: اللہ تعالیٰ کا کسی سے شر کو دور کرنا۔ المَصِیف: ندی کا موڑ۔

۳۔ أَصَافَ اصافۃً: بڑھاپے میں شادی کرنا، یا بڑھاپے میں اولاد ہونا۔ رجلٌ مِصْیَاف جمع مَصَایِیف: وہ مرد جو بالوں کے خاکستری ہونے تک شادی نہ کرے۔

◌ صَافَ ـِ صَیْفًا: موسم گرما والا ہونا۔ ھ/ب: میں موسم گرما گزارنا۔ صَافَ الزمانُ أم شتا: ہر وقت، سب حالات میں۔ صَیَّفَ، تَصَیَّفَ و اصطاف بمعنی صَافَ۔ صَیْفِی: موسم گرما کا یا سے متعلق۔ توقیت صَیْفِی: گھڑیاں آگے کرنے کا وقت۔ مَصِیف جمع مَصَایِف: گرمائی رہائش گاہ، گرمیاں گزارنے کی جگہ، آرام کرنے کا مرکز، تعطیلاتی کیمپ۔ اصطیاف: گرمیاں گزارنا۔ صائفۃ: موسم گرما (کا وقت)۔ مُصْطَاف: گرمیاں گزارنے کی جگہ جمع مصطافون: چھٹیاں گزارنے والے، موسم گرما میں کسی جگہ آنے والے۔

صیق: الصِیق: پسینہ، بدبو، آواز۔ جمع صِیقَان: چڑیا۔ والصِیقۃ جمع صِیَق: ہوا میں چکر لگانے والا غبار۔

صاك: صَاكَ ـِ صَیْکًا بہ الطیبُ او الدمُ: سے خوشبو یا خون کا چمٹنا۔

صیل: صِیلَ لہُ کذا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لئے کچھ مقرر کیا جانا۔

صیم: الصِیَمُّ: سخت مانگ، زبردست مانگ۔

صین: الصَوَانی واحد صینیۃ: چینی برتن، چین کے برتن۔ الصِینِیَّۃ: سینی، کشتی، ٹرے۔ الصیوان جمع صَوَاوِین: بڑا خیمہ، سرپردہ، کپڑے کا خیمہ۔

◌ الصین: چین (ملک)، چینی۔ بلاد الصین: چین۔ صینی: چین کا، چینی (صفت و اسم) چینی کے برتن۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ض

ض: تلفظ ضاد۔ حروف تہجی کا پندرہواں حرف اور حروف ابجد میں یہ عدد ۸۰۰ کے برابر ہے۔

ضنب: الضِنب (ح): اچھلی، موتی۔

ضأد: ا۔ ضَأدَ ـضَأدًا ہُ: ابر دشمنی میں غالب آنا۔

۲۔ ضئِدَ ضُؤادًا: کوزکام ہونا۔ اضادَ إضادًا ہُ: کوزکام میں مبتلا کرنا۔ الضُؤد و الضُؤد و الضُؤودَة: زکام۔ المَضؤود: زکام زدہ۔

ضاد: حرف عربی کا مخصوص حرف ہے۔ لہٰذا اهلُ الضاد: عربی بولنے والے، عرب۔ ابناءُ الضاد: عربی بولنے والے، عرب۔ اقطارُ الضاد: عربی بولنے والے ممالک۔ لغة الضاد: عربی زبان۔

ضاز: ضازَ ـضازًا و ضازاً ہُ: ظلم و زیادتی کرنا۔ ـ ہُ حقه: کا حق کم کرنا۔ قِسمَة ضوزَی و ضازَی و ضِنزَی: ناقص تقسیم۔ الضَیاز: معاملات میں کود پڑنے والا۔ الضوزَة: حقیر آدمی۔

ضاض: ضاضا ضاضاةً و ضوضاً و ضوضاةً القومُ فی الحرب: لڑائی میں شور کرنا۔ الضاضاء و الضوضاء و الضوضی: جنگ میں لوگوں کا شور۔ الضُوضُو (ح): ایک پرندہ جس کے پروں پر رنگا رنگ کے نقطے ہوتے ہیں۔ ـــ الأخیل بھی کہلاتا ہے۔ ـ و الضِنضِی: جڑ، معدن۔

ضنط: ضَیِطَ ـضَاطًا الرجُل: چلتے ہوئے جسم اور کندھے ہلانا۔

ضنك: ضئِك: کوزکام لگنا۔ الضُؤاك: زکام۔

ضنول: ضؤُل ـضآلةً و ضُؤولةً: حقیر ہونا، دبلا ہونا۔ ضاءَلَ شخصَهُ: خود کو حقیر کرنا۔ تضاءَل: چھوٹا ہونا، کمزور ہونا۔ چھوٹا ہونا۔ ـــ الشیءُ: سکڑنا۔ اِضطال: چھوٹا ہونا، کمزور ہونا صفت مُضطئِل۔

الضئیل جمع ضؤلاء و ضِئال و ضئیلون: چھوٹا چھوٹا، پتلا، حقیر، کمزور، لاغر۔ الضُئولة: کمزور، لاغر۔ الضئیلة: مؤنث الضئیل: پتلا سانپ، حلق کا کوا۔

ضئول ـضآلةً و ضُؤولةً: چھوٹا ہونا، ننھا سا ہونا، بہت کم یا ناکافی ہونا، دبلا، پتلا یا لاغر ہونا، تھوڑا ہونا، معمولی ہونا، چھدرا ہونا، کمزور ہونا، ناتواں ہونا؛ قلیل ہونا، کم ہونا، سمٹنا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا، گھٹ جانا، کم ہو جانا، قیمتیں وغیرہ گرنے لگنا، ختم ہونے کے قریب ہونا، سکڑنا، گھٹنا۔ ضآلة، ضِئالة و ضؤلة: چھوٹا ہونا، ننھا سا ہونا، بہت چھوٹا باریک یا رقیق ہونا، بہت کم ہونا، معمولی ہونا، ناکافی ہونا، دبلا پتلا یا لاغر ہونا (دبلاپن، لاغری)، کمی، قلت، کمزوری، لاغری، پتلا پن، قلت، گھٹنا، سکڑنا۔ تضاؤل: بمعنی ضآلة۔

ضأن: ا۔ ضأنَ ـضأنًا الضأنَ: دنبیوں کو بکریوں سے جدا کرنا۔ اضأنَ إضآنًا: بہت بھیڑوں یا دنبیوں والا ہونا۔ الضأن (ح): اسم جنس، بھیڑ، دنبہ۔ الضائن (فا) جمع ضأن و ضأن و ضئین و ضِئین: کمزور، ناتواں، کہتے ہیں: رجُلٌ ضائنٌ: کمزور آدمی۔ (ح): بھیڑ، دنبہ۔ ـــ من الغنم: اون والا بکرا، یا بھیڑ یا مینڈھا۔ الضائنة جمع ضوائن: الضائن کا مونث۔ الضِئنیّ: دہی بلونے کی بڑی مشک۔ الضانیّ عند المولّدین: بھیڑ یا دنبے کا گوشت۔ (ھمزہ کو نظر انداز کر کے اور یاء کی تخفیف کے ساتھ)۔

۲۔ الضائن جمع ضان و ضئین و ضِئین: ریت کا سفید اور چوڑا قطعہ۔

ضامة: مہرہ بازی۔ ضان (اسم جنس): بھیڑ، مینڈھا۔ ضانی: بھیڑ یا بکری کا گوشت (mutton)۔

ضانن: بھیڑ، دنبہ۔

ضأی: ضأی ـضأیًا الرجُل: پتلے جسم والا ہونا۔

ضبّ: ا۔ ضَبَّ ـضَبًّا: چپ ہونا۔ اضبَّ: چپ ہونا، چیخنا، بولنا (ضد)۔ ـ علی الشیءِ: کو چھپانا، پکڑنا، گرفت میں لینا۔ ـ علی ما فی نفسه: اپنے بھید کو چھپانا۔ دل کی بات پر خاموش رہنا۔ ـ علی غلٍّ فی قلبه: دل میں کینہ کو چھپانا۔ الضب و الضِب جمع ضِباب: پوشیدہ کینہ۔ کہتے ہیں: رجُلٌ خبٌّ ضبٌّ: بات پر قائم رہنے والا، حیلہ جو، بہانہ ساز۔

۲۔ ضَبَّ ـضَبًّا و ضَبیبًا الریقُ او الدم: تھوک یا خون کا بہنا۔ ـــ الشفةُ: ہونٹ میں خون بہنے کی بیماری پیدا ہونا۔ أضَبَّ الماءُ او الریقُ: تھوک یا پانی بہنا۔ ـــ الماءَ او الدمَ: پانی یا خون کو بہانا۔ الضَب (طب): ہونٹ کی بیماری جس سے خون بہتا ہے۔ الأضَبّ م ضَبّاء جمع ضُبّ من الجمال: ہونٹ سے خون بہنے والی بیماری والا اونٹ۔ الضَبیب (مص): ضبیبُ السَیف: تلوار کی دھار۔

۳۔ ضَبَّ ـضَبًّا الناقةَ: اونٹنی کا دودھ پوری مٹھی سے دوہنا۔ ـــ علی الشیء: پر حاوی ہونا، مشتمل ہونا۔ عوام ضَبَّبَ کہتے ہیں۔ ـ علیه: کو مضبوطی سے پکڑنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ یضبّ فوه او تضب لثاتهُ بکذا او علی کذا: فلاں شخص اس کا سخت حریص ہے۔ ضَبَّبَ علی الشیءَ: کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اضَبَّ علی الامر: کام پر حاوی ہونا۔ ـ علی المطلوب: کامیابی کے قریب ہونا۔ ـــ القوم: کام کے لئے اکٹھے کھڑے ہونا۔ الضَبَّة جمع ضِباب: خوب نچوڑ کر دوہنا۔ (ا ع): بندوق وغیرہ کا گھوڑا۔ المِضباب: بخیل۔

۴۔ ضَبَّ ـضَبًّا الشیءُ: چیز کا زمین سے چمٹنا۔ الضَبَّة

جمع ضِباب: برتن کھولنے کا اوزار۔

۵-ضَبُبَ ـُ و ضَبِبَ يَضَبُّ ضِبَابَةً المكانُ: کسی جگہ میں زیادہ گوہ ہونا۔ صفت ضَبِب م ضَبِبَة۔ ضَبَّبَ علی الضَبّ: گوہ کو بھڑکانا۔ ـ الباب: دروازہ میں بلی لگانا۔ أَضَبَّ المكانُ: کسی جگہ میں زیادہ گوہ ہونا۔ الضَبّ جمع أَضُبّ و ضُبّان و ضِباب و مَضَبَّة (ح): گوہ، سوسمار، مثل ہے: اعقد من ذَنَب الضَبّ: یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی گتھی سلجھانا مشکل ہے۔ لفظی ترجمہ: یہ گوہ کی دم سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ عرب کہتے ہیں: لا افعله حتی یردَ الضبُّ: یعنی میں یہ کام اسوقت تک نہیں کروں گا جب تک گوہ پانی پر نہ آئے۔ ان کے خیال میں تھا کہ گوہ کبھی پانی پر نہیں آتی۔ الضَبَّة جمع ضِباب (ح) مادہ گوہ۔ لوہے یا لکڑی کا دستہ جو دروازہ میں لگاتے ہیں۔ ارضٌ مَضَبَّة جمع مَضَاب: وہ زمین جہاں گوہ بکثرت پائے جائیں۔

۶-اَضَبَّت الارضُ: زمین کا زیادہ سبزی والا ہونا۔ ـ اليومُ: دن کا کہر والا ہونا۔ ـ الشَعَرُ: بالوں کا زیادہ ہونا، گھنے ہونا۔ ـ القومُ فی بغیتهم: لوگوں کا مقصد طلبی میں متفرق ہونا۔ أَضَبُّوا علیه: پر کثرت کرنا۔ اَضَبُّوا لفلانٍ: کی تلاش میں بکھر جانا۔ الضَبَّة جمع ضِباب: شگوفہ جو ابھی کھلا نہ ہو۔ الضَبابَة جمع ضَباب: کہر۔

۷-تَضَبَّبَ الصبیُ: بچہ کا موٹا ہونے لگنا۔ التَضْبِيبَة: گھی و کھجور کے شیرہ سے تیار کردہ بچوں کے لئے ایک کھانا۔

۸-الضَبُّ (طب): اونٹ کے سینہ یا قدم کا ورم۔ اونٹ کے اگلے پاؤں کی بیماری۔

○ ضَبَّ ـَ ضَبًّا علی: کو پکڑنا، کو مقفل رکھنا، کو حفاظت سے رکھنا، سنبھال کر رکھنا، کی احتیاط سے نگہبانی کرنا۔ ضَبَّبَ بمعنی ضَبَّ، ـ ہ: (دروازہ کو) چٹخنی لگانا۔ اَضَبَّ: (دن کا) کہر آلود ہونا۔ ضَبّ جمع ضِباب و أَضُبّ و ضُبّان: چھپکلی۔ ضَبّ: سامنے کا دانت۔ ضَبَّة جمع ضَبَّات و ضِباب: دروازہ کی چٹخنی، بلی، کھٹکے کا قفل۔ ضَباب: دھند، کہر۔

ضبأ: ۱-ضَبَأَ ـَ ضَبْأً و ضُبُوًّا الرجلُ: زمین یا درخت سے چمٹ جانا۔ صفت: ضَبِیءٌ۔ ـ هُ بالأرض: کو زمین سے چمٹانا۔ ـ الصائدُ: شکاری کا شکار سے چھپنا اور اس کے لئے داؤں کرنا۔ ـ الیه: کی پناہ لینا۔ ـ منه: سے شرمانا۔ أَضْبَأَ الشیءَ: کو چھپانا۔ ـ علیه: پر خاموش رہنا، کو چھپانا۔ ـ ما فی یده و علیه: ہاتھ کی چیز کو پکڑے رکھنا۔ اِضْطَبَأَ اضطباءً منه: سے چھپنا۔ المَضْبَأ جمع مَضَابِئ: چھپنے کی جگہ۔

۲-ضَبَأَ ـَ ضَبْأً و ضُبُوءًا علی القوم: لوگوں کے پاس اچانک آپہنچنا۔

ضبث: ضَبَثَ ـِ ضَبْثًا و اضْطَبَثَ بالشیء و علیه: پر سختی سے قبضہ کرنا۔ ـ به: کو سختی سے پکڑنا۔ ضُبِثَ علیه: مار کھانا۔ الضَبْثَة جمع ضَبَثات و أَضْبَاث: قبضہ، گرفت۔ الضُبَاث: شیر کے پنجے۔ الضَبَّاث و الضَبِث و الضَبُوث (ح): شیر۔ المَضَابِث: (مفرد مِضْبَث): شیر کے پنجے۔

ضبح: ۱-ضَبَحَ ـَ ضَبْحًا و ضُبَاحًا تِ الخیلُ فی عَدْوِها: دوڑنے میں گھوڑوں کا اپنی تھوتھنی سے آواز نکالنا۔ ـ ضُبَاحًا الأرنبُ والثعلبُ و القوسُ: خرگوش، لومڑی اور کمان کا آواز نکالنا۔ إِنْضَبَحَ: تھوتھنی سے آواز نکلنا۔

۲-ضَبَحَ ـَ ضَبْحًا ت النارُ العودَ: آگ کا لکڑی کو متغیر کرنا۔ إِنْضَبَحَ لونُهُ: متغیر ہو کر راکھ جیسے رنگ کا ہونا۔ الضِبْح: راکھ۔ الضَبْحَاء: آگ سے جھلسی ہوئی کمان۔

۳-ضَابَحَ هُ: کا منہ در منہ مقابلہ کرنا، کو گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ تَضَابَحَ: ایک دوسرے سے مڈبھیڑ ہونا، ایک دوسرے کو گالی دینا۔

○ ضَبَحَ ـَ ضَبْحًا ہ: کو (آگ کا) کالا کرنا۔ ـ: گھوڑے کا تھوتھنی سے آواز نکالنا۔

ضبر: ۱-ضَبَرَ ـِ ضَبْرًا الحجارةَ: پتھر تہ بہ تہ رکھنا۔ ـ الکتبَ: کتابیں جمع کرنا یا انکا بنڈل باندھنا۔ ـ ضَبْرًا و ضَبَرانًا الفرسُ او المُقَیَّد: گھوڑے کا پاؤں جوڑ کر کودنا۔ یا بندھے ہوئے شخص کا پاؤں جوڑ کر کودنا۔ ضَبَّرَ الشیءَ: کو جمع کرنا۔ الضَبْر (مص) جمع ضُبُور (اع): محاصرہ میں قلعہ کے نزدیک پہنچنے کا آلہ جو ٹینک سے مشابہ ہوتا تھا۔ محاصرہ کی مشین۔ فرسٌ ضَبْرٌ: طاقت ور گھوڑا۔ الضِبار و الضُبّار: کتابیں۔ الضَبَارَة: طاقت، اچھی صحت اور اچھی جسمانی ساخت۔ الضِبَارَة جمع ضَبَائِر: لوگوں کی ایک جماعت، گروہ۔ (آپ کہتے ہیں: رأيتهم يخرجون من المكان ضَبَائِرَ ضبائرَ: یعنی میں نے لوگوں کو اس جگہ سے گروہ در گروہ نکلتے دیکھا) مجمع۔ ـ و الضَبَارَة جمع ضبائر و الإِضْبَارَة جمع اضابیر: کتابوں یا تیروں کا بنڈل۔ أَلضِبِرّ: بہت کودنے والا۔ الضَبُور و الضَبِر: سخت۔ (ح): شیر۔

۲-الضَبْر: افلاس، غربت، تنگدستی۔ الضِبْر: بغل۔

○ ضُبَارَة و إِضْبَارَة جمع اضابیر: مِسل (dossier, file)۔ أُضْبُور: مِسل (dossier, file)۔

ضبز: ضَبَزَ - ضَبْزًا هُ: کو تیز نظر سے دیکھنا۔ الضَبِز و الضَبِیز من الذِئَاب: شعلہ بار نظر سے دیکھنے والا بھیڑیا۔

ضبس: ضَبَسَ ـِ ضَبْسًا علی الغریم: قرضدار سے سختی کے ساتھ تقاضا کرنا۔ ضَبِسَ ـَ ضَبَسًا ت نفسهُ: کے جی کا بگڑنا، متلانا۔ الضَبْس: بخیل، کنجوس۔ الضِبْس: شریر، کہتے ہیں: هو ضِبْسُ شَرٍّ: وہ شریر ہے۔ الضَبِس: شرارتی، شرانگیز، برائی کی طرف جھکنے والا، مائل بہ شر۔ الضَبِیس: شرارتی، برائی کی طرف جھکنے والا۔ مائل بہ شر، سخت مزاج، بھاری روح و جسم والا، بزدل، احمق۔

ضبط: ۱-ضَبَطَ ـِ ضَبْطًا و ضَبَاطَةً هُ: سے چمٹنا، پر غلبہ پانا اور قوی ہونا۔ ـ علیه: کو گرفتار کرنا۔ ضَبَطَت الارضُ: زمین پر عام بارش ہونا۔ تَضَبَّطَ هُ: کو گرفتار کر کے قید کرنا۔ ـ الضأنُ: دنبے کا طاقتور اور موٹا ہونا، تھوڑی گھاس کھانا۔ إِنْضَبَطَ: مضبوط ہونا، قابو میں آنا، مناسب ترتیب میں ہونا۔ کہتے ہیں: ضبطه فانضبط: اس نے اس کو مضبوط کیا تو وہ مضبوط ہوگیا، جیسے کہتے ہیں: قَهَره فانقهر: اس نے اس پر غلبہ پایا اور وہ مغلوب ہوگیا۔ الضَبْط (مص): روکنا۔ الضَابِط (فا) ضُبَّاط: قوی (ح): شیر۔ (اع): جس کا رتبہ کم از کم سیکنڈ لفٹیننٹ ہو، افسر رابطہ (liaison officer)۔ (اع): سول اور فوجی تنظیموں میں رابطہ کا ذریعہ۔ الأَضْبَط (ح): شیر۔

۲-ضَبَطَ ـِ ضَبْطًا و ضَبَاطَةً هُ: کی پوری پوری حفاظت کرنا۔ ـ العملَ: کام مکمل کرنا اور اچھی طرح کرنا۔ ـ الکتابَ: کتاب کی تصحیح کرنا اور اس پر حرکات لگانا۔ اِنضبط: محفوظ ہونا۔ آپ کہتے ہیں ضبطه فَانْضَبَطَ: اس نے اس کی حفاظت کی اور وہ محفوظ ہو گیا۔ الضَابِط جمع ضُبَّاط: وشیا حاکم، قائد، گورنر، افسر۔ ـ و الضابطة (عندالعلماء): قائدہ کلیہ، کلی قانون۔ الضَابِطِیَّة: واحد ضَابِطیّ) پولیس والے، پولیس کا پیشہ۔

۳-ضَبِطَ ـَ ضَبَطًا: دونوں ہاتھوں سے کام کرنا۔ صفت: اَضْبَط م ضَبْطاء جمع ضُبْط۔

○ ضَبَطَ ـِ ضَبْطًا (ہ/ہ): کو چھینا، پکڑنا، گرفتار کرنا، روکنا، گرفت میں لینا۔ ـ ہ: کو رجسٹر... رہنے دینا، سے باعزم نبٹنا، کا ماہر بن جانا، لوز یر کرنا، پر

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

قابو پانا، کو قابو میں لانا، کو قابو میں رکھنا۔ (ض/ ه): کو
قابو میں رکھنا، روکنا، روکے رکھنا، کو زیر کرنا، مغلوب
کرنا، کو قابو میں کرنا۔ ه: کو گرفت میں لینا، کی قرقی
کرنا، کو قرق کرنا، ضبط کرنا، کو درستی کے ساتھ کرنا یا اچھی
طرح کرنا، کو بالکل ٹھیک ٹھیک کرنا، کی صحیح تعریف کرنا،
کو نظام کے تحت لانا، باقاعدہ بنانا، ٹھیک کرنا، کو ترغیب
دینا، ہم آہنگ بنانا، موافق یا مطابق بنانا، پر سختی سے عمل
کرنا یا عمل پیرا ہونا (وقت) ٹھیک رکھنا، ترتیب دینا،
ترتیب سے رکھنا، کی تصحیح کرنا، کا اندراج کرنا، ٹھیک
ماپنا، کو تول یا ناپ کر دینا، کو پورا پورا لینا۔ انضبط:
رکنا، نظام کے تحت آنا، ترتیب میں رکھا جانا، سدھایا
جانا، تربیت دیا جانا، متعین ہونا، استوار ہونا، قائم ہونا۔
ضبطًا: ٹھیک طور پر، ٹھیک ٹھیک، پابندی، وقت کیساتھ
بالضبط: ٹھیک طور پر ٹھیک ٹھیک، وقت کی پابندی سے۔
ضبطُ الحسابات: کھاتہ نویسی (book
keeping) ضبط الشهوة: پرہیزگاری محتاط
زندگی، پارسائی ضبط النفس: جذبات پر قابو
(self command)، ضبط نفس، self
control۔ جهاز الضبط: کنٹرول کا آلہ،
controlling device ضبطية: پولیس
اسٹیشن، پولیس مضبطة جمع ضابط: پروٹوکول
protocol، کارروائی، روداد (minutes)۔
انضباط: ضبط وانضباط (discipline) لجنة
الانضباط: تادیبی یا انضباطی مجلس disciplinary
board ضابط: آلہ کنٹرول controlling
device، کنٹرول، گورنر، ریگولیٹر، جمع ضباط: آفیسر
جمع ضوابط: عام قاعدہ، معیار، اصول، قانون،
(اخلاقی) وعظ ونصیحت ضابط آمر: سینئر آفیسر
senior officer ضابط مامور: لفٹیننٹ۔
ضابط الصف: جمع ضباط الصف: نان کمشنڈ
آفیسر ضابط الصوت: Volume
control صف ضابط جمع صف ضابط: نان
کمشنڈ آفیسر غير ضابط ولا رادع: مکمل طور پر
بے لگام، Completing unrestrained:
قابو سے باہر (out of all control) ضابطة:
پولیس جمع ضوابط: کنٹرول کرنے والی طاقت یا
حکم مضبوط: درست، صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔
ضبع: اضبع ضبعًا و ضبوعًا و ضبعانًا البعيرُ:
اونٹ کا تیز دوڑنا۔ القومُ للصلح: صلح کا ارادہ
کرنا اور اس کی طرف مائل ہونا۔ ضبعًا هُ: کو
مارنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھانا۔ علی فلان: کو بد
دعا دینے کے لئے ہاتھ اٹھانا ضبّعت الخيل او
الابل: گھوڑوں یا اونٹوں کا اپنی چال میں پہلوؤں کو
پھیلانا ضابع مضابعةً: ہر ایک کا دوسرے کی
طرف تلوار کا ہاتھ بڑھانا۔ الرجلَ: سے مصافحہ
کرنا اضطبع: اپنا ایک بازو ننگا کرنا، بازو ننگا کر کے
چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے لا کر بائیں کاندھے پر
ڈالنا۔ الشيءَ: کو بغل میں لینا الضبع (مص)
جمع ضباع: بازو، بازو کا درمیان، بغل۔ کہتے ہیں:
اخذ بضبعه: اس نے اس کی معاونت کی اور اس کو
قوی کیا۔ والضباع: دعا کیلئے ہاتھ اٹھانا الضابع
(فا) من الخيل او الابل جمع ضُبَّع: بہت تیز
دوڑنے والا گھوڑا یا اونٹ۔
۲ضبِع ضبعًا الرجلُ: ظلم کرنا، جور کرنا۔
۳ضبُع الرجلُ: بزدل ہونا۔
۴المضبَع والضبع جمع مضابع: کنارہ پہلو الضبع
جمع أضباع: کنارہ، پہلو۔ جمع ضباع و أضبُع و
ضُبع و ضَبُع و ضبوعة و ضبعات و مضبعة
(ح): بجو (مونث ہے مگر مذکر و مونث دونوں پر بولا
جاتا ہے۔ اس کی تصغیر خلاف قیاس أُضَيْبِع ہے۔ کبھی
مادہ کو ضبُعة بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اسکی دو قسمیں مشہور
ہیں: دھاریدار اور سفید اور کالے دھبے والی۔ موخر
الذکر اول الذکر سے بڑی اور طاقتور ہے الضبع:
سخت قحط کا سال۔ جمع ضباع و أضبُع و ضُبع و
ضُبُع و ضبوعة و ضبعات و مضبعة (ح):
وحشی بجو الضبعان: (جس کی مثنی ضبعان ہے نہ کہ
ضبعانان) جمع ضباعين م ضبعانة جمع ضباعين و
ضبعانات (ح): نر وحشی بجو۔
ضبع و ضبع: (مؤنث) جمع ضباع و أضبُع:
چرخ، لکڑ بگڑ۔
ضبن: اضبن ضبنًا المكانُ: جگہ کا تنگ ہونا
صفت: ضَبِن۔
۲ضبن ضبنًا عنه الهدية: تحفہ کو کسی تک پہنچنے سے
روکنا، منع کرنا۔
۳ضبن ضبنًا هُ: کو بغلوں کے نیچے رکھنا یا لینا۔
أضبن و اضطبن الشيءَ: کو بغلوں کے نیچے رکھنا
یا لینا المضبن (مص): بغل کے نیچے رکھنا یا لینا۔
الضِبن: بغل اور پہلو کے درمیان۔ کہتے ہیں: فلان
في ضِبن فلان: فلاں شخص فلاں شخص کی یا سرپرستی
میں ہے المضبنة و الضِبنة و الضُبنة و الضبنة:
کنبہ، عیال، بال بچے۔ (کہتے ہیں فلان في ضبنة
فلان: فلاں شخص فلاں شخص کی پناہ میں ہے یا سرپرستی
میں ہے)، بیوی۔
۴الضبان: چمڑے یا کپڑے کا ٹکڑا جو کفش دوز جوتی کے
اندر کی طرف رکھتا ہے۔ (ترکی لفظ)۔
اضطبن: بغل کے نیچے لینا ضبن: بغل۔
(arm-pit)
ضبا: ضبا ضبوًا اليه: کی پناہ لینا۔ ـتُهُ النارُ: کو
آگ کا بھوننا، متغیر کرنا اضبي الشيءَ: کو اونچا
کرنا، پکڑنا، روکنا۔ عليه: کو جا پکڑنا الضابي
(فا): راکھ الضبوة عند العامة: تمباکو رکھنے کی
چمڑے کی تھیلی۔ صحیح لفظ الضبّة ہے۔ یہ الظبية کی
تحریف بھی ہو سکتی ہے جس کا معنی چمڑے کا بٹوہ ہے۔
المضباة: بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی۔
ضج: اضج ضجًّا و ضجيجًا و ضجاجًا و
ضجاجًا: چیخ پکار کرنا، شور مچانا ضاجّ ضجاجًا و
مضاجةً هُ: کے ساتھ جھگڑنا اضج اضجاجًا
القومُ: چیخنا، شور مچانا الضجة: چیخ پکار۔ کہتے ہیں:
سمعت ضجةَ القوم: میں نے لوگوں کی چیخ پکار
سنی الضجاج: بہت چلانے والا الضجوج
من النوق: دودھ دیتے وقت چلانے والی اونٹنی۔
۲ضجّج الرجلُ: جانا، مائل ہونا۔
۳ضجّج الطائرَ و نحوَهُ: پرندہ وغیرہ کو زہر دینا۔
الضجاج: ہر زہریلا پودا جو پرندوں یا درندوں کے
لئے زہر کا کام دے۔
۴الضجاج: ہاتھی دانت، ایک قسم کا مہرہ الضجاج:
کھانے کا گوند۔
ضج: ضج ضجًّا و ضجيجًا: شور مچانا، اودھم مچانا،
چلانا، چیخ و پکار کرنا، شور و غوغا برپا کرنا اضجّ: بمعنی
ضجّ۔ ضجة: چیخ، شور و غل، چیخ پکار، شور غل
غپاڑہ ضجيج: بمعني ضجة ضجوج:
چلانے والا، شور کرنے والا، چیخ مارنے والا، چلانے
والا، دھاڑنے والا، گرجنے والا ضجاج: زور سے
دھاڑنے والا، گرجنے والا، چلانے والا، شور و غوغا
کرنے والا۔
ضجر: ضجر ضجرًا و تضجّر منه وبه: سے
یا پر، بے قرار و بے چین ہونا، دل تنگ و غمگین ہونا۔
صفت ضجر۔ أضجرهُ: کو ستانا، تنگ کرنا۔
الضجر (مص): غم واندوہ کی بے کلی، دل کی تنگی۔
الضجر: تنگ جگہ المضجرة: بے قراری،
کبیدگی المضجرة و الضجور: بہت بے قرار،
بہت تنگ دل المضجر جمع ضجاجر و
مضاجير: کبیدہ خاطر کرنے والا، بے قرار و بے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چین کرنے والا۔

۞ ضَجِرَ ـ ضَجَراً من اوب: پر، کے متعلق ناراض ہونا، غصے ہونا، برہم ہونا، تنگ ہونا، پریشان ہونا، دق ہونا، برافروختہ ہونا، ہیجان میں آنا، اشتعال میں آنا، بھڑکنا، نامطمئن ہونا، ناخوش ہونا، بے چین ہونا، بے کل ہونا، افسوس کرنا، غم کرنا۔اَضْجَرَ ہٗ: کو غصہ دلانا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، برہم کرنا، تکلیف دینا، زحمت دینا، سخت اذیت دینا، سخت کوفت پہنچانا، تشویش میں ڈالنا، بے چین کرنا، بدحواس کرنا، کے چھکے چھڑانا۔تَضَجَّرَ بمعنی ضَجِرَ۔ ضَجَر: برہمی، جھنجھلاہٹ، ہیجان، جھلاہٹ، پریشانی، پریشان کن بات، غصہ، بے اطمینانی، ناخوشی، عدم اطمینان، غیر مطمئن کرنے والی بات، خفگی، آزردگی، دکھ، رنج، الم، ملال، اندوہ، غم کا باعث، سخت غم، وجہ ملال۔ ضَجِر: برہم، تنگ، پریشان، برافروختہ، غصہ میں، ہیجان زدہ، ناراض، چڑچڑا، بدمزاج، خفا، بیزار، روٹھا ہوا، اداس، ناخوش، بے کل، بے چین، پریشان، غم زدہ، تکلیف میں، بے آرام۔مُضْجِر: پریشان کن، برہم کرنے والا، برافروختہ کرنے والا، تنگ کرنے والا، دق کرنے والا، ہیجان میں لانے والا، اشتعال دلانے والا، سخت غصہ دلانے والا، اکتا دینے والا، تھکا دینے والا۔مُتَضَجِّر: بمعنی ضَجِر۔

ضجع: ا۔ضَجَعَ ـ ضَجْعًا و ضُجُوعًا و اِنْضَجَعَ و اِضَّجَعَ و اضْطَجَعَ: پہلو کے بل لیٹنا۔ضَجَّعَ و تَضَجَّعَ فی الامر: کام میں کوتاہی کرنا۔ضَاجَعَ ہٗ: کے ساتھ لیٹنا، صفت مُضَاجِع۔ کہتے ہیں: ضَاجَعَہٗ الھمُّ: اسے غم لگا رہا۔اَضْجَعَ ہٗ: کو پہلو کے بل لٹانا۔تَضَاجَعَ عن الامر: کام سے غافل ہونا۔الضَّجْعَۃ (الضجع کا واحد): ایک بار کا سونا، رائے کی کمزوری۔الضِّجْعَۃ: لیٹنے کی ہیئت، سستی، کاہلی۔الضُّجْعَۃ: رائے کی کمزوری۔ والضُّجَعَۃ والضُّجُعِیّ والضِّجْعِیّ والضُّجُعِیَّۃ و الضِّجْعِیَّۃ: بہت لیٹنے والا، سست، کاہل۔الضَّاجِع جمع ضَوَاجِع: احمق ـــــ من الدوابّ: نامبارک جانور، بے خیر جانور۔رَجُلٌ ضَاجِعٌ: بہت لیٹنے والا، سست، کاہل۔الضَّاجعۃ جمع ضَوَاجِع: ضاجع کا مونث۔الضُّجُوع: کمزور رائے والا، آہستہ رفتار بادل۔الضَّجِیع م ضَجِیعَۃ: ساتھ لیٹنے والا۔المَضْجَع جمع مَضَاجِع و المُضْطَجَع: خواب گاہ۔مَضَاجِعُ الغَیْث: بارش کی کثرت کی جگہیں۔المَضْجُوع: کمزور رائے والا۔

۲۔ضَجَعَ ـ ضَجْعًا و ضُجُوعًا النجمُ: ستارے کا غروب ہونے کے لئے جھکنا۔ضَجَعَت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا۔اَضْجَعَ الشیءَ: کو پست کرنا۔ـــ الحرفَ: حرف کو کسرہ کی طرف امالہ کرنا ـــــ جُوالَقَہٗ: بھری ہوئی گون کو خالی کرنا۔الضِّجْع: میلان، جھکاؤ۔ کہتے ہیں ضِجْعُہٗ اِلَیّ: اس کا جھکاؤ یا میلان میری طرف ہے۔الضِّجْعَۃ: نیند، خواب، آرام وراحت۔الضَّاجِع جمع ضَوَاجِع: وادی کا موڑ اور اس کا ڈھلوان، دریا کا دہانہ اور موڑ ـــــ من النجوم: غروب ہونے کے لئے جھکنے والا ستارہ۔ کہتے ہیں: اراك ضاجعا الی فلان: میں تمہیں فلاں شخص کی طرف مائل دیکھتا ہوں۔الضَّاجِعَۃُ جمع ضَوَاجِع: دریا کا دہانہ۔الضَّجُوع: بھاری مشک جو اٹھانے والے کو جھکا دے، بڑا ڈول۔

۳۔الضَّجْع: صابون، ہر وہ چیز جس سے کپڑا صاف کیا جائے۔الضَّاجِعَۃ جمع ضَوَاجِع: پہاڑی ـــــ و الضجعاء: زیادہ بکریاں۔

۞ ضَجَعَ ـ ضَجْعًا و ضُجُوعًا: پہلو کے بل لیٹنا، لیٹنا، جھکنا، ٹیک لگانا، منہ کے بل گرا ہونا، سو جانا۔ضَاجَعَ ھا: عورت کے ساتھ مباشرت کرنا، مجامعت کرنا۔انضجع بمعنی ضَجَعَ۔ اِضْطَجَعَ و اِضَّجَعَ بمعنی: ضجع ضَجْعَۃ: لیٹنے کی حالت، لیٹنا، نیند، خواب۔ضُجْعَۃ: دیر سے اٹھنے والا، سست، کاہل الوجود، جس کی ہڈیوں میں سستی پڑی ہو، مٹھا۔ضُجَعِی: دیر سے اٹھنے والا، سست، کاہل الوجود، جس کی ہڈیوں میں سستی پڑی ہو، مٹھا۔ضَجِیع: شریک بستر، ہم بستر، ہم خواب، ساتھی۔مَضْجَع جمع مَضَاجِع: بستر، پلنگ۔اَخَذَ مَضْجَعَہٗ: سونے کے لئے لیٹنا۔اَقَضَّ مَضْجَعَہٗ یا اَقَضَّ علیہ المَضْجَعَ یا اَقْلَقَ مَضْجَعَہٗ: کی نیند حرام کرنا، کو سونے نہ دینا، کو سونے سے محروم کرنا۔مُضَاجِع: ہم بستر۔مُضْطَجَع: پلنگ، بستر۔

ضجم: ضَجِمَ ـ ضَجَمًا الفمُ او العنقُ: منہ یا گردن کا ٹیڑھا ہونا۔اَضْجَمُ م ضَجْماء: ٹیڑھے منہ یا گردن والا۔ کہتے ہیں فی فمہ ضَجَم: اس کے منہ میں ٹیڑھا پن ہے۔تَضَاجَمَ الفمُ: منہ کا ٹیڑھا ہونا ـــــ الامرُ بینھم: کسی امر کا متنازع فیہ ہونا، کسی امر میں اختلاف ہونا۔

ضح: الضِّحّ: سورج، دھوپ، ہر چیز جس پر دھوپ

marfat.com

۲۔ضَحْضَحَ و تَضَحْضَحَ السرابُ: سراب کا متحرک ہونا ـــ الامرُ: کام کا واضح ہونا۔الضَّحْضَح: تھوڑا پانی۔الضَّحْضَاح: تھوڑا پانی یا پایاب پانی، بہت اونٹ۔

۞ ضَحْضَحَ و تَضَحْضَحَ: سراب کا مرتعش ہونا، جھلملانا۔ضَحْضَاح: کم گہرا، اتھلا، پایاب (پانی)۔

ضحك: ا۔ضَحِكَ ـ ضَحْكًا و ضِحْكًا و ضَحِكًا و ضِحِكًا: ہنسنا۔(کہتے ہیں ضحک منہ و بہ و علیہ: وہ اس پر ہنسا)۔کشادہ روئی کرنا جس سے اس کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ضَاحَكَ ہٗ: ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا۔ایک دوسرے پر ہنسی میں غالب آنا۔اَضْحَكَ ہٗ: کو ہنسانا۔تَضَحَّكَ و اِسْتَضْحَكَ بمعنی: ضَحِكَ۔ تَضَاحَكَ: ہنسنا ـــ الرجلُ: بتکلف ہنسنا ـــــ القومُ: ایک دوسرے کو ہنسانا۔الضاحِكۃ جمع ضَوَاحِك: ضَاحِك کا مونث۔ ہر وہ دانت جو ہنسی میں ظاہر ہو۔ کہتے ہیں افترّ عن ضَوَاحِکہ: وہ آہستہ آہستہ ہنسا۔الضُّحْکَۃ: وہ شخص جس پر لوگ ہنسیں۔الضُّحَکَۃ: وہ شخص جو لوگوں پر ہنسے ـــــ و الضُّحُکَّۃ و الضَّحَّاك و الضَّحُوك و المِضْحَاك: بہت ہنسنے والا۔الأُضْحُوکَۃ جمع أَضَاحِیك: ہنسانے والی چیز۔

۲۔ضَحِكَ ـ ضَحْكًا و ضِحْكًا و ضَحِكًا ضِحِكًا الطریقُ: راستہ کا ظاہر ہونا ـــــ ت الارضُ عن النبات: زمین کا نباتات اگانا ـــ الشیبُ براسہ: سر میں بڑھاپا ظاہر ہونا ـــ طلعُ النخلۃِ: درخت خرما کا شگوفہ پھوٹنا۔الضَّحْك (مص): سفید دانت، پھول، کھجور کا شگوفہ، جھاگ، برف، راستے کا وسط: شہد۔الضَّاحِك (فا): بہت سفید پہاڑی پتھر۔ کہتے ہیں: لہ رَأْیٌ ضَاحِك: اس کی رائے واضح ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔الضَّحُوك جمع ضُحُك و الضَّحَّاك: راستے کا وسط، واضح راستہ۔

۳۔ضَحِكَ ـ ضَحَكًا الرجُلُ: تعجب کرنا۔الضَّحَك: تعجب۔

۴۔أَضْحَكَ الحوضَ: حوض کو پانی سے لبریز کرنا۔

۞ ضَحِكَ ـ ضَحْكًا و ضِحْكًا و ضَحِكًا من او ب: پر ہنسنا، کی ہنسی اڑانا ـــــ من/ب/علی: پر فقرے کسنا، کا مذاق اڑانا، پر پھبتی کسنا، آوازے کسنا، کا منہ چڑانا، کو گھٹیا یا برا جاننا، حقیر سمجھنا۔ضَحِكَ بِملءِ شِدْقَیْہِ او مِلْءَ شِدْقَیْہِ: کھیس نکالنا، کھسیانی ہنسی ہنسنا۔ضَحِكَ عَلَی ذَقَنِہ (جمع علی ذقونھم): کو بیوقوف بنانا، کو بنانا، کو جھوٹی بات کا یقین دلانے کی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کوشش کرنا۔ ضَحِكَ فِي ذقنه: کے منہ پر ہنسنا۔
ضَحَّكَهٗ: کو ہنسانا۔ أَضْحَكَ و اسْتَضْحَكَ (ہ من): کو کے متعلق ہنسانا۔ ما يُضحك الثكلَى: جو اس عورت کو بھی ہنسا دے جس کا بچہ مر گیا ہو۔ مراد بہت ہی مزاحیہ۔ ضَحْك و ضِحْك: ہنسنا، ہنسی قہقہہ۔ ضَحْكَة جمع ضَحَكات: قہقہہ، ہنسا۔ ضُحْكَة: تمسخر کا نشانہ، ہنسی اڑانے کی چیز۔ ضَحُوك: اکثر یا ہمیشہ ہنسنے والا، ہنسی، قہقہہ۔ ضَحَّاك: اکثر یا ہمیشہ ہنسنے والا، ہنسی، قہقہہ، مسخرا، جوکر، بھانڈ۔ أُضْحُوكَة جمع أَضاحِيك: تمسخر کا نشانہ، ہنسی اڑانے کی چیز، ہنسی، دل لگی، چہل، ہنسی ہنسی میں دیا ہوا جھانسا، عملی مذاق۔ أَضْحَك: زیادہ مضحکہ خیز یا احمقانہ جس پر زیادہ ہنسی آئے، زیادہ مزاحیہ۔ مَضْحَكَة: تمسخر کا نشانہ، ہنسی اڑانے کی چیز۔ ضاحِك: ہنسنے والا۔ ضاحِكُ السِّنّ: خوش باش، شادمان، خوش، زندہ دل، ہنس مکھ، شگفتہ، دلکشا۔ مُضْحِك: مضحکہ خیز، جس پر ہنسی آئے، مزاحیہ، مزاحیہ اداکار، بھانڈ، مسخرا۔ قصة تمثيلية مضحكة: طربیہ (comedy)۔

ضحل: ضَحَلَ ـَ ضَحْلاً الغديرُ: تالاب میں کم پانی ہونا۔ ـــ الماءُ: پانی کا نتھرا ہوا ہونا، صاف شفاف ہونا۔ کہتے ہیں: ما أَضْحَل خيرَك: تمہاری سخاوت کتنی کم ہے! الضَّحْل جمع ضِحال و أَضْحال و ضُحول: کم گہرا، اتھلا پانی۔ المَضْحَل: کم پانی والی جگہ۔

ضحا: ا۔ ضَحَا ـُ ضَحْوًا و ضُحُوًّا و ضُحِيًّا الرجلُ: دھوپ کھانا، دھوپ میں بیٹھنا۔ ـــ الشيءُ: کو دھوپ لگنا۔ ـــ الطريقُ: راستہ کا ظاہر ہونا۔ کہتے ہیں: ضحا ظلُّهٗ: یعنی وہ مر گیا۔ شجرة ضاحِيَة: بے سایہ درخت۔ ضَحِيَ يَضْحَى ضَحًا و ضَحَاءً ا: کو دھوپ لگنا، دھوپ کھانا، کھل جانا۔ ـــ ت الليلةُ: رات کا بے بادل ہونا۔ ضَحَّى تَضْحِيَةً فلانًا: کو چاشت کے وقت کھانا کھلانا۔ ـــ الغنمَ: بکریوں کو چاشت کے وقت چرانا۔ ـــ بالشاة: قربانی کے ایام میں بکری کو چاشت کے وقت ذبح کرنا، کو چاشت کے وقت ذبح کرنا (بلا قید ایام قربانی)۔ ـــ الرجلُ: فدیہ ہو جانا۔ ضَحَّى بنفسه او بمصلحته او بماله في سبيل كذا او من اجل كذا: (عصر حاضر کے ادبا کے نزدیک) کسی راہ میں یا خاطر اپنی جان، مفاد یا مال کو قربان کر دینا۔ ـــ عن الامر: معاملہ کو بیان کرنا، ظاہر کرنا۔ ضاحَى مُضاحاةً الرجلَ: کے پاس بوقت چاشت آنا۔ أَضْحَى: چاشت کے وقت میں ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو ظاہر کرنا۔ کہتے ہیں: أَضْحَى اللّٰهُ ظلَّكَ: اللہ تجھے ہلاک کرے (بددعاء کے طور پر)۔ ـــ يفعل كذا: وہ ایسا کرنے لگا (چاشت کے وقت یا مطلقاً) (نوٹ: اس صورت میں یہ لفظ کان کا عمل کرتا ہے)۔ تَضَحَّى تَضَحِّيًا: چاشت کے وقت کھانا، چاشت کے وقت سو جانا، دھوپ کھانا۔ اسْتَضْحَى إِسْتِضْحَاءً للشمس: (خاص طور پر) سردی کے موسم میں دھوپ کھانا یا دھوپ میں بیٹھنا۔ الضَّحَاء: (سورج نکلنے کے بعد) قبل از دوپہر (کا وقت، چاشت کا وقت۔ الضَّحْو (مص) و الضَّحْوَة: قبل از دوپہر، چاشت کا وقت۔ الضُّحَى: چاشت کا وقت جب سورج چڑھ آیا ہو، سورج، بیان، کہتے ہیں: ما لِكلامِهٖ ضُحًى: اس کی گفتگو کسی قدر غیر واضح ہے۔ الضَّحْيَانُ م ضَحْيَانَةٌ: بوقت چاشت کھانے والا۔ الضَّحِيَّة جمع ضَحايا: دن کا چڑھنا، چاشت کا وقت، قربانی کی بکری، ذبیحہ۔ الأَضْحاة جمع أَضْحًى و الأُضْحِيَّة و الإِضْحِيَّة جمع أَضاحِيّ: قربانی کی بکری۔ يوم الأَضْحَى: قربانی کا دن۔ الأَضْحَى م ضَحْياء من الخيل: سفید سیاہی مائل گھوڑا۔ الضاحِي (فا): دھوپ کھانے والا۔ ضاحِيُ الجِلْد: کھال کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے رہے۔ الضاحِيَة جمع ضَواحٍ: الضاحی کا مونث؛ ہر چیز کا سامنے کا پہلو۔ کہتے ہیں: شكت ضَواحيه: اس کے دھوپ کھانے والے اجزاء جیسے کندے وغیرہ نے تکلیف دی۔ شجرة ضاحِيَة الظل: وہ درخت جس کا سایہ نہ ہو۔ کہتے ہیں: فَعَلَهٗ ضاحِيَةً: اس نے وہ کام سرعام کیا۔ ضَواحِي البلدة: شہر کا گرد و نواح۔ ـــ الحوض: حوض کے اطراف۔ يومٌ إضحيان: بے ابر کا دن۔ لَيلةٌ إضحيانةٌ و إضحِيَةٌ: روشن رات۔ ارضٌ مَضْحَاةٌ: سورج کے سامنے کی زمین، دھوپ والی زمین۔

۲۔ ضَحَّى تَضْحِيَةً عن الامر: کام میں دیر لگانا، آہستگی کرنا۔ کہا جاتا ہے: ضَحِّ رُوَيْدًا: جلدی نہ کر۔ أَضْحَى عن الامر: سے دور ہونا۔

ضَحَّى ب: کو قربان کرنا، کی قربانی دینا۔ ضَحَّى بنفسه: اپنی جان کی قربانی دینا۔ ـــ بالنفس و النفيس: جان و مال کی قربانی دینا۔ بين عشية و ضُحاها: ایک دن سے دوسرے دن تک، یکا یک، اچانک۔ ذهب او وقع ضَحِيَّتَهٗ: کا شکار ہونا۔ عيد الأضحى: عید قربانی۔ يوم الاضحى: قربانی کا دن، دس ذوالحجہ۔ أُضْحِيَة جمع أَضاحِي: قربانی کا جانور، خونی قربانی۔ ضَحِيَة جمع ضَحايا: قربانی کا جانور، شکار۔ تَضْحِيَة: قربانی دینا جمع تَضْحِيات: قربانی۔ ضاحٍ للشمس: دھوپ والا، جہاں سورج کی روشنی پہنچے۔ ضاحِيَة جمع ضَواحٍ: گرد و پیش، گرد و نواح، قرب و جوار، دور افتادہ علاقے، نواحی بستی۔ مُضَحًّى: وہ جگہ جہاں ناشتہ کیا جائے۔

ضخ: ضَخَّ ـُ ضَخًّا الماءَ: پانی گرانا۔ ـــ ت العينُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِنْضَخَّ الماءُ: پانی گرنا۔ المِضَخَّة (ف): فوارہ، پچکاری۔ ـــ الماصّة: کنویں سے پانی نکالنے کا آلہ۔

ضَخَّ ہ: (پانی) نکالنا، دھار بنا کر نکالنا، پھوٹ بہانا، پانی کا فوارہ چھوڑنا۔ مِضَخَّة جمع مِضَخَّات: پچکاری، فوارہ، پھوار، پمپ (pump)۔ مِضَخَّة جَذّابة: خلا پیدا کر کے کھینچنے والا پمپ (suction pump)۔ مِضَخَّةُ الحرائق (او الحريق): آگ بجھانے والا انجن fire engine۔ مِضَخَّة رافِعَة: Suction pump۔

ضخز: ضَخَزَ ـَ ضَخْزًا عينَهٗ: آنکھ نکالنا۔

ضخم: ضَخُمَ ـُ ضَخامَةً و ضِخَمًا: موٹا ہونا، جسیم ہونا، ضخیم ہونا۔ صفت: ضَخْم جمع ضِخام م ضَخْمَة جمع ضَخْمات۔ ضَخَّمَهٗ: کو ضخیم بنانا۔ الضُّخام: ہر بڑے جسم کی چیز۔ الأَضْخَم: ضخیم، جسیم، موٹا، زیادہ جسیم یا ضخیم۔ المِضْخَم: بہت مارنے والا، بڑی قدر و منزلت والا سردار۔

ضَخُمَ ـُ ضَخامَةً: بڑا، جسیم، ضخیم، بھاری، موٹا، بھاری بھرکم یا طول طویل ہونا یا ہو جانا۔ ضَخَّمَ ہ: کی افراط زر کرنا، میں ہوا بھرنا۔ تَضَخَّمَ: پھیلنا (ہوا یا گیس کا) بھر جانا۔ ضَخْم جمع ضِخام: بڑا، کافی، بڑا، عظیم، ضخیم، بھاری، بھاری بھرکم، طول طویل، بہت وسیع، خاصا موٹا، جسیم، لحیم شحیم، موٹا، فربہ، گول مٹول، موٹا تازہ، گداز جسم والا، شاندار پرشکوہ، ٹھاٹھ کا، عظیم الشان۔ المدفعيّة الضخمة: بھاری توپ خانہ، بھاری توپیں۔ تَضَخَّم و تضخُّم مالي او نقدي: افراط زر (inflation)۔ مُضَخِّم جمع مُضَخِّمات: آلہ جہیر الصوت، بلند گو amplifier۔ مُضَخِّمُ الصوت: لاؤڈ سپیکر loud speaker

ضد: ا۔ ضَدَّ ـُ ضَدًّا فلانًا في الخصومة: پر جھگڑے میں غالب آنا۔ ـــ هٗ عن كذا: کو سے نرمی کے ساتھ ہٹانا۔ ضادَّ مُضادَّةً هٗ: کی مخالفت کرنا۔ أَضَدَّ: تردید کرنا، ناراض ہونا۔ تَضادَّا تَضادًّا: ایک دوسرے کی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مخالفت کرنا۔ الضِد جمع أضداد و ضِدّ: مخالف، مثل نظیر (ضد)، دشمن۔ الأضداد: وہ کلمات جن کے متضاد معنی ہوں۔ جیسے ضد کا لفظ جس کا معنی مخالف اور نظیر ہے۔ کہتے ہیں: ھو ضدّہ: یعنی وہ اس جیسا یا اس کی مثل ہے یا اس کا مخالف ہے۔ الضدید: ضد۔ نظیر۔ کہتے ہیں: لا ضدید له: اس کا کوئی نظیر نہیں۔

۲۔ ضَدَّ ـضَدًّا القربةَ: مشک بھرنا۔

۳۔ اَضَدّ: غضبناک ہونا۔

ضَادَّ: متضاد ہونا، مخالف ہونا، مخالفانہ ہونا، معاندانہ ہونا، الٹ ہونا، معکوس ہونا۔ ـ ہ/ہ: کے خلاف کام کرنا، کا مخالف ہونا۔ ـ ہ: کو دشمن بنانا، بیری بنانا۔ ـ ہ: کے خلاف کرنا، کی خلاف ورزی کرنا۔ ـ (ہ/ہ): کے خلاف ہونا۔ ـ ہ: کے متضاد ہونا۔ ـ (ہ/ہ): کے مخالف کام کرنا۔ تَضَادَّ: ایک دوسرے کے خلاف ہونا، مخالف ہونا، متضاد ہونا، ایک دوسرے کی تردید کرنا۔ ضِدّ جمع أضداد: مخالف، متضاد، نمایاں فرق، دو مخالف معانی رکھنے والا لفظ؛ دشمن، حریف، مقابل، مدمقابل، مخالف، مرض شکن ٹیکہ، تریاقی ٹیکہ (antitoxin)، تریاق (antidote) بمعنی مخالف بہ خلاف۔ ضِدّ: کے خلاف۔ کان علی الضد من ذلك: الٹ کرنا یا سوچنا، مخالف موقف اختیار کرنا۔ ضِدّیة: تخالف، تباین، تضاد، مخالفت، مقابلہ، دشمنی۔ مُضَادّ: مخالف، مقابل، نیز بمعنی counter, anti-، contra، مُضادات: تریاق کی خاصیت رکھنے والی ادویہ۔ مُضادات للحبل: مانع حمل ادویہ contraceptives۔ مُضَادات حشریة: کیڑے مار ادویہ insecticides۔ مضادات للفساد: جراثیم کش ادویہ antiseptics، متضاد: مخالف۔ متضاد، مقابل۔

ضدی: ضَدِیَ یَضْدَی ضَدًی علیه: پر غضبناک ہونا، صفت: ضَادٍ م ضَادِیة جمع ضَوَاد و ضَادِیات۔ ضَادَی مُضَادَاةً ہٗ: کی مخالفت کرنا۔ أَضْدَی إضداءً الاناءَ: برتن بھرنا۔

ضرّ: ضَرَّ ـضَرًّا و ضُرًّا فلانًا و لفلان: کو نقصان پہنچانا۔ ضُرَّ بَصَرُہٗ: اندھا ہونا۔ ضَرَّرَ تَضْرِیرًا ہٗ: کو بہت زیادہ نقصان پہنچانا۔ ضَارَّ ضِرَارًا و مُضَارَّةً ہٗ: کو نقصان پہنچانا۔ أَضَرَّ الرجلُ: اندھا ہوجانا۔ ـ ہٗ: کو تکلیف پہنچانا۔ تَضَرَّرَ: نقصان پانا۔ إِسْتَضَرَّ به: سے نقصان پانا۔ الضَرّ و الضُرّ و الضَرَر جمع أضرار: نقصان، سختی، تنگی، بدحالی، کمی۔ الضَرَّاء: سختی، تنگ حالی، قحط، جانی و مالی نقصان۔ الضُرَّة: جانی و مالی نقصان۔ الضَرَّة: اسم مرة، تکلیف، تنگ حالی۔ الضَرارة: جانی و مالی نقصان، اندھا ہو جانا۔ الضارّ النافع: نفع بخش نقصان پہنچانے والا۔ (اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے)۔ الضارُورة: نقصان۔ الضَرِیر: نقصان۔ ـ جمع أَضِرَّاء و اَضْرار م ضَرِیرَہ جمع ضَرَائِر: اندھا، دبلا بیمار، نقصان زدہ۔ التَضِرّة و التَضُرَّة: تنگ حالی۔ المَضَرَّة جمع مَضَار: نقصان۔

۲۔ ضَرَّ ـضَرًّا و ضُرًّا ہٗ إلی کذا: کو پر مجبور کرنا۔ کہتے ہیں: لا یضرك علیه رجُلٌ: تم کوئی مرد نہیں پاؤ گے جو اس شخص سے زیادہ تم کو دے سکے۔ ضَارَّ ضِرارًا و مَضَارَّةً ہٗ: کی مخالفت کرنا۔ أَضَرَّ ہٗ علی الأمر: کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ إضْطَرَّ ہٗ إلی کذا: کو پر مجبور کرنا، کو کا حاجت مند بنانا۔ ـ أُضْطُرَّ: مجبور کیا جانا۔ الضِرّ: رجُلٌ ضِرٌّ أَضْرَارٍ: اپنی ذات میں مصیبت مرد۔ الضَرَّة: حاجت ضرورت۔ الضَرُورَة و الضَارُو و الضَارُورَة و الضارُوراء: حاجت، ضرورت، اس سے مثل ہے: الضرورات قبیح المحظورات: ضرورت کسی قانون کو نہیں جانتی۔ الضَرُورِیّ: ضروری۔ جس پر انسان مجبور ہو۔ جس میں کرنے نہ کرنے کا اختیار چھین لیا گیا ہو۔

۳۔ ضَارَّ امرأتَهُ: اپنی عورت پر سوتن لانا۔ أَضَرَّ الرجُلُ: سوت لانا۔ الضِرّ و الضُر: مرد کا کسی کو سوت کر کے لانا۔ ضَرَّة المرأة: عورت کے خاوند کی بیوی، یعنی عورت کی سوت، سوتن۔ جمع ضَرائِر۔ کہتے ہیں: بینھم داء الضرائر: ان کے درمیان حسد ہے۔ الضریر: غیرت۔ رجُلٌ مُضِرّ: دو یا زائد بیویوں والا۔ إمرأةٌ مُضِرّ و مُضِرَّة: سوتوں والی عورت، عورت جس کی سوت یا سوتن ہوں۔

۴۔ ضَارَّ ضِرارًا و مُضَارَّةً ہٗ: کی مخالفت کرنا، سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، سے مسابقت کی سعی کرنا۔ أَضَرَّ به: کے بہت قریب ہونا اور سے چمٹ جانا، کو نقصان پہنچانا۔

۵۔ أَضَرَّ إلیه و علیه: کی طرف جلدی کرنا۔ ـ یعدو: دوڑتے ہوئے رفتار تیز کرنا۔ ـ علی السیر الشدید: تیز رفتاری برداشت کرنا۔ الضریر: صبر، صابر، کہتے ہیں: انه ضَرِیرٌ و ذو ضَرِیر علی الشیء: وہ اس بات پر صبر کرنے والا اور اسے برداشت کرنے والا ہے۔ نیز کہتے ہیں: ناقة ذات ضَرِیر: بہت دیر سے تھکنے والی اونٹنی۔

۶۔ الـ[illegible]

marfat.com

چیونٹی۔ (صحیح الذرّ ہے)۔ الضَرَّة: پستان کی جڑ، پستان یا تھن، بہت مال۔ الضَرَّتان: چکی کے دونوں پاٹ۔ الضَرِیر: وادی کا کنارہ، نفس، بقیہ جسم۔

ضَرَّ ـضَرًّا (ہ/ہ): کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا، تکلیف پہنچانا، زخمی کرنا، کے لئے نقصان دہ، ضرر رساں ہونا۔ ضَارَّ ہ/ہ: کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا۔ تکلیف دینا، زخمی کرنا، کے لئے نقصان دہ اور ضرر رساں ہونا۔ أَضَرَّ ہ/ہ/ب: کو نقصان پہنچانا۔ کمزور کرنا، زخمی کرنا، کیلئے نقصان دہ و ضرر رساں ہونا۔ ـ ہ علی: کو پر مجبور کرنا۔ ـ ہ: پر تشدد کرنا، پر دباؤ ڈالنا، پہلی بیوی پر دوسری بیوی لانا۔ تَضَرَّرَ: نقصان اٹھانا، زخمی ہونا۔ ـ من: کی یا کے متعلق شکایت کرنا۔ إضَّرَّ: بمعنی تضرّر۔ إضْطَرَّ ہٗ إلی: کو پر مجبور کرنا۔ أُضْطُرَّ الی: پر مجبور کیا جانا۔ ـ ہنگامی صورت حال میں ہونا، ناگہانی ضرورت پیش آنا، سخت دباؤ میں ہونا۔ ـ إلی: کی اشد ضرورت ہونا، کا ضرورت مند ہونا، کی ضرورت رکھنا۔ ضُرّ و ضَرّ: نقصان، تکلیف، زخم، چوٹ، گھاٹا۔ ضُرّ: گھر میں پہلے بیوی کے ہوتے دوسری بیوی لانا۔ ضَرَّة جمع ضَرَّات و ضرائر: سوت، سوتن، تھن۔ ضَرَر جمع أضرار: نقصان، گھاٹا، خسارہ۔ ما الضَرَر؟: اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا کیا نقصان ہے؟۔ أخَفُّ الضَرَرین: دو برائیوں میں سے چھوٹی برائی۔ ضَرَّاء: تکلیف، عسرت، مفلسی، آفت، مصیبت، ادبار، نحوست۔ فی السرَّاء و الضرَّاء: اچھے اور برے دنوں میں۔ ضَرِیر: اندھا۔ ضَرُورَة جمع ضَرُورَات: ضرورت، مشکل، تکلیف، دباؤ، مجبوری، پابندی، حاجت، عسرت مفلسی، بری حالت، ناگہانی ضرورت، احتیاج، درشتی۔ ضرورةً و بالضرورة: لازمًا۔ عند الضرورة: ضرورت پڑنے پر، اگر ضروری ہو۔ للضرورة القُصوَی: سخت ضرورت کی حالت میں، بدترین صورت حال میں۔ للضرورة أحکامٌ اور الضرورات تبیح المحظورات: ضرورت کسی قانون کو نہیں جانتی۔ ضروری: ضروری، اشد ضروری، مطلوب، ناگزیر، اٹل۔ ضروریات: ضرورتیں، احتیاجات۔ کان من الضروری: ضرور ہونا۔ ضروریات الحیاة: زندگی کی ضروریات۔ ضروریات الاحوال: ہنگامی صورت حالات، صورت حال کی ضروریات۔ مَضَرَّة جمع مَضَرَّات و مَضَار: نقصان، خسارہ، گھاٹا، دقت، دشواری، ناموافق صورت حال (علی کیلئے)۔ إضطرار: مجبوری،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زبردستی، دباؤ، جبر ضرورت، ہنگامی صورت حال، بری حالت، حالت زار، ناگوار صورت حال، ناگہانی ضرورت۔ عند الاضطرار: ہنگامی صورت حال میں، ناگہانی ضرورت پڑنے پر۔ اضطراری: متشددانہ، تشدد آمیز، جابرانہ، لازمی، ناگزیر، اشد ضروری، ضروری۔ ضار و مُضِرّ: نقصان دہ، ضرر رساں، مضرت رساں (ب: کے حق میں، کیلئے)۔ مُضْطَرّ الی: پر مجبور، کا حاجتمند، ضرورت مند۔ مُضْطَر: غریب، مفلس، قلاش۔

ضرا: ضَرَا ۔ضَرْاً الشیءُ: چھپنا۔ اِنضَرَأَ انضراءً ت الابلُ: اونٹوں میں موت کا واقع ہونا۔ ت الشجرةُ: درخت کا خشک ہونا۔

ضرب: ۱۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا ہٗ: کو تلوار یا لاٹھی وغیرہ کی ضرب سے مارنا۔ ت العقربُ: بچھو کا ڈسنا۔ العدوَّ بقنابل مدافعه او بقذائف المُدَمِّرَة: دشمن پر توپوں کے گولے اور تباہ کن بم پھینکنا۔ ضَرُبَ ضَرَابَةً: سخت مار والا ہونا۔ ضَرَّبَ ہٗ: کو بہت مارنا، پیٹنا۔ ضَارَبَ مُضَارَبَةً و ضِرَابًا ہٗ: ایک دوسرے پر مار میں غالب آنا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے پر تلوار مارنا۔ اَضْرَبَ الخُبزُ: روٹی کا پکنا۔ تَضَارَبَ القومُ: ایک دوسرے کو مارنا۔ اِضْطَرَبَ القومُ: باہم مار پٹائی کرنا۔ کہتے ہیں اِضطرب حَبْلُہُمْ: ان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ الضَّرْبَةُ: اسم مرہ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں لا آخذ مالی علیك الا ضربةً واحدة: میں تمہارے ذمہ واجب الاداتی رقم یکمشت لوں گا۔ الضَّرِب و الضَّرُوب: مارنے والا۔ الضَّرَّاب: بہت مارنے والا۔ اسی سے ہے ضَرَّابَةُ الناقوس: گھنٹی بجانے کا ہتھوڑا۔ الضَّرِیب جمع ضُرَباء: مارنے والا، مارا ہوا، پٹا ہوا۔ الضَّرِیْبَة جمع ضَرَائِب: چوٹ کھایا ہوا جسم کا حصہ، جسے تلوار سے ضرب لگائی گئی ہو۔ من السیف: تلوار کی دھار۔ المَضْرِب جمع مَضَارِب: مارنے کی جگہ یا زمانہ۔ و المضرَب جمع مَضَارِب: تلوار یا تلوار کی دھار، گودے والی ہڈی۔ مَضْرِبَةُ و مَضْرَبَةُ السیف: تلوار کی دھار۔ المِضْرَبُ و المَضْرَاب جمع مَضَارِب: بہت مارنے والا، مارنے کا اوزار جیسے گھنٹی بجانے کا ہتھوڑا۔ المِضْرَبَة: مارنے کا اوزار۔

۲۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الشیءُ: چیز کا متحرک ہونا۔ ـــ العرقُ: رگ کا پھڑکنا۔ ـــ الجرحُ او الضرسُ: زخم یا داڑھ میں سخت درد ہونا۔ ـــ فی الماء: پانی پر تیرنا۔ ـــ بیده: ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ ـــ بالقداح: تیروں کو گھمانا۔ ـــ فی البوق: بگل بجانا۔ ضَرَّبَ ہٗ فی الحرب: کو جنگ میں دلیر بنانا اور ترغیب دینا۔ تَضَرَّبَ الشیءُ: چیز کا متحرک ہونا، موج مارنا۔ اِضطَرَبَ: متحرک ہونا، موج مارنا، ایک دوسرے کو مارنا۔ ـــ الامرُ: کسی امر کا خلل پذیر ہونا۔ ـــ من کذا: سے بے آرام ہونا۔ ـــ فی امورہ: میں متردد و مشکوک ہونا۔ الضَّرْب جمع ضِراب: تیز ذہن، سرگرم شخص۔ المُضْطَرِب و المُضْطَرِبَة من الحیات: بے حرکت سانپ۔

۳۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الصلاةَ: نماز قائم کرنا۔ ـــ الخیمةَ: خیمہ نصب کرنا۔ ـــ اللیلُ: رات کا لمبا ہونا۔ ت العنکبوتُ نسیجَها: مکڑی کا جالا تننا۔ ـــ بنفسه الارضَ: میں اقامت کرنا، سفر کرنا (ضد)۔ ضَرَّبَ المظلّة بالخیوط: دھاگوں سے چھتری کو مضبوط کرنا۔ اَضْرَبَ فی المکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ الضارب جمع ضَوَارِب: لمبی تاریک رات، پست زمین جس میں درخت ہوں، وادی نما۔ المِضْرَب جمع مَضَارِب: بڑا خیمہ۔

۴۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا ہٗ البردُ: کو ٹھنڈ لگ جانا۔ ضَرِبَ ۔ضَرَبًا النباتُ: پودوں کا ہوا یا ٹھنڈ سے مرجھا جانا۔ ضُرِبَت الارضُ: زمین پر کہر گرنا۔ اَضْرَبَ القومُ: لوگوں کا پالے سے ڈھک جانا۔ الضَّرْب جمع اَضراب: ہلکی بارش۔ کہتے ہیں مطرٌ ضَرْبٌ: یعنی ہلکی بارش۔ الضَّرِیب جمع ضرائب: پالا، برف۔

۵۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا علی یده: کو روک دینا۔ القاضی علی یده: قاضی کا کسی کو اپنے مال کے تصرف سے روک دینا۔ ـــ علی اذنه: کو سننے سے منع کرنا۔ ـــ عن فلان کذا: کو سے روک لینا۔ ـــ فلانًا عن فلانٍ: فلاں کو فلاں سے روکنا۔ کہتے ہیں: ضُربتُ عنه صفحًا: میں نے اس سے منہ پھیر لیا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ ضربتُ عنه جَرَوتی: میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے پاس سے چلا گیا۔ ضَرَبَ بذقنه الارضَ: بزدلی کرنا، خوف کھانا۔ اَضرب عنه: سے اعراض کرنا۔ اسی سے ہے اَضربَ العاملُ عن العمل: کارکن نے ہڑتال کر دی، یعنی کام پر نہیں گیا۔ صفت مُضْرِب م مُضْرِبة۔ الاضراب جمع اضرابات: ہڑتال۔

۶۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الزمانُ: زمانہ گزر جانا۔ ـــ ت الطیرُ: پرندہ کا خوراک کی تلاش میں نکل جانا۔ ـــ بنفسه الارضَ: زمین میں سفر کرنا، اقامت کرنا (ضد)۔ ضَرْبًا و ضَرَبَانًا فی الارض: تجارت یا غزوہ کیلئے زمین پر سفر کرنا۔ ضَرَّبَت عینُهُ: آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا، آنکھ کا اندر دھنس جانا۔ ضَارَبَ ہٗ و ضَارَب له فی المال و بالمال: کے مال سے تجارت کرنا۔ الطیرُ الضوارِبُ: خوراک کے متلاشی پرندے۔

۷۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الشیءَ بالشیء: چیز کو چیز سے ملانا۔ ضَرَّبَ الشیءَ بالشیء: چیز کو چیز سے ملانا۔ ـــ النجّادُ المُضَرَّبة: پوشش والے کا رضائی کو سینا۔ ـــ ت المرأةُ اللحاف: عورت کا لحاف کو لمبے لمبے ٹانکیں لگا کر سینا (عام زبان میں)۔ الضَّرِیبَة من الصوف و نحوه جمع ضرائب: اون یا روئی کی پونی۔ بساطٌ مُضَرَّب: کمبل۔ المُضَرَّبَة: رضائی۔

۸۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الدرهمَ: درہم ڈھالنا۔ ـــ الخاتمَ: انگوٹھی ڈھالنا۔ ـــ علی المکتوب: خط پر مہر لگانا۔ اِضْطَرَبَ فلانٌ: حصہ مقرر کرنے کا مطالبہ کرنا، کچھ ڈھالنے کے لئے کہنا۔ کہتے ہیں: اِضطربتُ خاتمًا من ذهب: میں نے سونے کی انگوٹھی ڈھالنے کا حکم دیا۔ درهمٌ ضَرْبٌ: ڈھالا ہوا درہم۔ دار الضرب: ٹکسال۔ الضریبة جمع ضَرَائِب: طبیعت، عادت۔ کہتے ہیں هذه ضریبته التی ضُرِبَ علیها: یہ اس کی عادت ہے جو اس کی جبلت میں داخل ہے۔ المَضْرِب جمع مَضَارِب: اصل۔

۹۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الاجلَ: مدت مقرر کرنا۔ ـــ المثلَ: مثال بیان کرنا۔ ـــ له سَهْمًا من ماله: کے لئے اپنے مال سے حصہ مقرر کرنا۔ ضُرِبَ ذلك مثلا: کو مثال بنایا جانا۔ الضَّرْب (مص) جمع ضِراب: مثل، شکل، قسم۔ ـــ جمع ضُرُوب و اضراب و اَضْرُب فی العروض: علم عروض میں دوسرے مصرعے کا آخری جزء۔ اس کی مثال شاعر کے قول میں دیکھئے۔

فِیْ فَمِیْ مَاءٌ وَ هَلْ یَنْ
طِقُ مَنْ فِیْ فِیْهِ مَاءُ

(میرے منہ میں پانی ہے۔ کیا جس کے منہ میں پانی ہو وہ بول سکتا ہے؟) اِس شعر کے دوسرے مصرعہ میں (فیه ماء) ضرب ہے۔ الضریب جمع ضرائب: قسم، مثل، شکل، آدمی کی ہیئت، حصہ۔

۱۰۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الجزیةَ علیهم: پر جزیہ لگانا، عائد کرنا۔ ـــ علیهم الذِلّةَ: کو ذلیل کرنا۔ الضریبة جمع ضرائب: جزیہ۔

۱۱۔ضَرَبَ ۔ضَرْبًا بینهم: لوگوں کے درمیان فساد

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرانا۔ الدھرُ بیننا: کو جدا کرنا۔ ضَرَّب بینھم: کو بھڑکا دینا۔ الضَربۃ: فساد، آفت۔ ضَربان الدھر: حوادثِ زمانہ۔

۱۲ اَضرَبَ ضَربًا الیہ: کی طرف مائل ہونا۔ أَضرَبَ: سر جھکانا۔ کہتے ہیں أَضرَبَ جاشًا لأمرِ کذا: اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی کیلئے تیار کرنا، جی میں ٹھان لینا کہ، کا مصمم ارادہ کرنا۔

۱۳ اَضرَبَ ضَربًا الحاسبُ کذا فی کذا: کو سے ضرب دینا۔ ن فی ك (ع ح): علم حساب میں مثلاً ایسے اعداد کو جو ''ن'' کے برابر ہوں ''ک'' میں جمع کرنا۔ جیسے ۱۳×۳ = ۱۳+۱۳+۱۳=۳۹۔ ۱۳ کو مضروب اور ۳ کو مضروب فیہ کہتے ہیں، جب کہ ۳۹ جداء یا حاصل ضرب ہے۔ ب، ج د ہ: اس میں ب کو ج سے پھر اس کے حاصل کو ج سے پھر اس کے حاصل کو د سے پھر اس کے حاصل کو ہ سے ضرب دینا۔ اس میں حاصل ضرب (جداء) متغیر نہیں ہوتا۔ اگر ب، ج د ہ کی ترتیب تبدیل ہو جائے۔ ب ج د ہ کو مضاریب، عوامل، اضلاع کہا جاتا ہے۔

۱۴ اِستَضرَب العسلُ: شہد کا سفید اور گاڑھا ہونا۔ الضَرَبُ و الضَرَب: سفید اور گاڑھا شہد۔

۱۵ ضَرَبَ ضَربًا ہ/ ہ ب: کو سے مارنا، چوٹ لگانا۔ ۔ ب علی: سے پر مارنا۔ ہ علی: کو پر مارنا؛ ہ/ ہ: کو نشانہ کرنا، پر فیر کرنا، پر گولہ باری کرنا، گولہ اندازی کرنا۔ ہ و علی: (باجا وغیرہ) بجانا، (ٹائپ رائٹر پر) ٹائپ کرنا۔ ۔: (بچھو کا) ڈسنا۔ ضرب بین: کو جدا کرنا۔ ہ علی: کچھ کسی شخص یا چیز پر عائد کرنا۔ عن: سے منہ موڑنا، سے الگ ہونا، کو چھوڑ دینا، سے پہلو بچانا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا۔ ضربًا و ضَرَبانًا: (رگ دل کا) دھک دھک کرنا، دھڑکنا، (زخم، دانت کا) بہت دکھنا، درد کرنا؛ حرکت کرنا، ہلنا۔ فی: میں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھرنا، منہ اٹھائے پھرنا، گشت کرنا، سفر کرنا؛ (گلیوں میں) کوچہ گردی کرنا، سیر کرنا، چہل قدمی کرنا۔ (جہاز کا) بحری سفر کرنا؛ (پرندے کا) گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم علاقے کو چلے جانا۔ ضرب إلی: مائل ہونا (رنگ کا)، ایک رنگ سے دوسرے رنگ میں بتدریج بدلنا، (جیسے مائل بہ سرخی، یا مائل بہ سیاہی ہونا)۔ ضرب ضرابًا ھا: (اونٹنی) کو جفتی کرنا، اونٹنی پر سوار ہونا۔ ضرَبَ لہ اجلا: کیلئے تاریخ مقرر کرنا۔ ضَرَبَ الأرزَّ: چاول نکالنا، چاول کا چھلکا اتارنا۔ ضَرَبَ فی الأرض: سفر کرنا۔

ضرب بویۃً علی: کو لیپنا، پوتنا، پلاستر کاری کرنا، پر روغن کرنا۔ ضرب الباب: دروازہ کھٹکھٹانا۔ ضرب خطا: لکیر کھینچنا۔ ضرب الجرس: گھنٹی بجانا۔ ضرب حقنًا: پچکاری لگانا، انجکشن دینا۔ ضرب اخماسا لاسداس اور ضرب اخماسۃً فی أسداسِہِ: دماغ پر بہت زور دینا، غم و اندوہ سے سوچنا کہ کوئی راہ نجات ملے، سمجھ میں نہ آنا کہ کیا کرے، بدحواس ہو جانا، ساز باز کرنا، سازش کرنا، ہوائی قلعے تعمیر کرنا، دن میں خواب دیکھنا۔ ضرب خیمۃ: خیمہ نصب کرنا۔ ضرب الرقمَ القیاسی: ریکارڈ توڑنا۔ ضرب السلام: فوجی سلامی دینا۔ ضرب ضریبۃً علی: پر ٹیکس عائد کرنا۔ ضرب اطنابَہُ فی: میں جڑ پکڑنا، جم جانا، مستحکم ہونا، رواج ہونا، عام ہونا۔ ضرب اطنابہ علی: میں آباد ہو جانا، مستقل رہائش اختیار کرنا۔ ضَرَبَ طُوبًا: اینٹ بنانا۔ ضرب عددا فی آخر: ایک عدد کو دوسرے سے ضرب دینا۔ ضرب عنقہ: کا سر قلم کرنا، کو قتل کرنا، مار ڈالنا، کی گردن مارنا، کا سر کاٹ ڈالنا۔ ضرب قالبَہُ: کی نقالی کرنا، کا نمونہ اتارنا، کا سا بنانا، کا چربہ اتارنا۔ ضرب بہ کفًّا: کے چہرے پر تھپڑ مارنا، کو تھپڑ لگانا، طمانچہ مارنا، چپت رسید کرنا۔ ضرب مَثَلًا ل: پر کوئی ضرب المثل چسپاں کرنا۔ ضرب لہ مثلاً: کو مثال دینا، کے لئے نمونہ پیش کرنا یا نمونہ کا حوالہ دینا۔ ضرب مث ً: مثال دینا۔ ۔ ہ ل یا ب ع ی: کے لئے کسی چیز کو بطور مثال پیش کرنا۔ ضرب الامثال: دانائی کی باتیں بتانا، اخلاق اصول، واضح کرنا۔ ضرب نقوداً: سکے ڈھالنا (نوٹ چھاپنا)۔ ضرب موعدا: ملاقات کے وقت یا جگہ پر اتفاق کرنا، ملاقات کا وقت مقرر کرنا۔ ضرب إلی الحمرۃ یا إلی الصفرۃ: سرخی مائل ہونا، سفیدی مائل ہونا۔ ضرب بہ الارض: کو زمین پر پھینکنا۔ ضرب فی الخیال: غیر حقیقی یا خیالی ہونا، اپنے خیالوں میں مستغرق یا عالم خیال میں ہونا، ناممکن کا خواہاں ہونا۔ ضرب براسہ علی صدرہ: اپنے سر کو سینہ پر جھکا دینا۔ ضرب بسھم مصیب فی: میں عملی حصہ لینا۔ ضرب بسھم و نصیب فی: میں شرکت کرنا، میں شریک ہونا، حصہ دار ہونا۔ ضرب فیہ بعِرقٍ: میں شریک ہونا، حصہ دار ہونا۔ ضرب بہ عُرضَ الحائط: کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، مسترد کرنا، ترک کر دینا، سمندر میں پھینک دینا۔ ضرب بنظرہ إلی: پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا۔ ضرب بوجہ صاحب [illegible]

مٹانا، کاٹ ڈالنا، محو کرنا۔ ضرب عنہ صَفحًا: کو دور کر دینا، نظر انداز کر دینا، پر کوئی توجہ نہ دینا، چھوڑ جانا۔ ضرب فی حدید بارد: بے اثر و نتیجہ اقدامات کرنا۔ ضربَ بینی و بینہ الایام: قسمت نے مجھے اس سے جدا کر دیا یا ہم دونوں کو الگ کر دیا۔ ضرب لنفسہ سَبعَۃَ ایّام: اس نے سات دن قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ضَرَّب ہ ب: کو کے ساتھ ملانا، میں کی آمیزش کرنا۔ ضَرَّب بین: میں اختلاف رائے پیدا کرنا، نا اتفاقی، ان بن یا نزاع کا بیج بونا، میں پریشانی کا باعث ہونا۔ ضَرَّب ہ: لحاف، رضائی سینا۔ ضَارَبَ ہ: سے لڑنا، جھگڑنا، مقابلہ کرنا۔ ضَارَبَ: سٹا کرنا۔ اَضرَبَ عن: سے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سے کنی کترانا، سے بچنا۔ اَضرب فی: میں رہنا، قیام کرنا، اقامت گزین ہونا۔ اضرب جاشًا ل: کے لئے تیار و آمادہ ہونا، کو کرنے کا مصمم ارادہ کرنا۔ اضرب صفحاً عن: سے اجتناب کرنا، باز رہنا۔ اضرب (عن العمل): کام کرنا بند کر دینا، ہڑتال کرنا۔ اضرب عن الطعام: بھوک ہڑتال کرنا۔ تضارب: ہاتھا پائی پر اتر آنا، جھگڑا کرنا، دنگا کرنا، لڑائی کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، پیٹنا (آراء وغیرہ کا)۔ منقسم ہو جانا، اختلاف کرنا، باہم دگر آویزاں ہونا، اختلاف رائے رکھنا، اختلاف رکھنا، متصادم ہونا، متضاد ہونا۔ اضطرب: (لہروں کا) متصادم ہونا، امڈ آنا، نرمی سے ٹکرانا؛ کام بے چینی یا گڑبڑی کی حالت میں ہونا، افراتفری، ہنگامہ، ہل چل، جوش، بے چینی، اضطراب، بیقراری یا کہرام کی حالت میں ہونا، ہیجان زدہ ہونا، پریشان ہونا، تیز ہلچل میں ہونا، ادھر ادھر ہلنا، دوڑ دھوپ ہونا، کھلبلی پڑنا، افراتفری، دوڑنا، دھکم دھکا ہونا، اندھا دھند دوڑ کرنا، ہلنا جلنا، لڑکھڑا کر چلنا، تھرتھرانا، پریشان ہونا، بے چین ہونا، غیر منظم ہونا، بے ترتیب ہونا، بوکھلانا، الجھنا، درہم برہم ہونا، کانپنا، لرزنا، تھرانا۔ ضرب جمع ضُروب: قسم، نوع، نمونہ، مثال، کئی، متعدد۔ جمع اضراب: مانند، مماثل، مشابہ، جیسا۔ ضرب خانہ: ٹکسال۔ اُکار الضرب: شوٹنگ، فائرنگ، شیلنگ، ضرب النار: گنگ، بمباری۔ وضع السلاح تحت الضرب: ہتھیار سے نشانہ باندھنا، فائر کرنے کے لئے تیار ہونا، ہتھیار سنبھالنا۔ ھو و اضرابہ: وہ اور اس جیسے اور لوگ۔ ضربۃ الشمس: لو کا اثر (sunstroke)۔ تحت گرمی سے نڈھال ہونے کی کیفیت (heat stroke)۔ ضربۃ قاضیۃ: مہلک یا کاری ضرب

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(علی کیلئے)- ضربة جزاء: (فٹ بال میں) پنلٹی
کک (penalty kick)- ضِـراب: ہم بستری،
مباشرت- ضَـــريبة: ٹیکس، محصول، خراج، کردار،
طبیعت، مزاج، خو، افتاد طبع جمع ضرائب- ضريبة
الدخل: انکم ٹیکس- ضريبة كسب العمل: ونج
ٹیکس- ضريبة الملاهي: داخلہ ٹیکس، تفریحی ٹیکس-
مَضْرِب جمع مضارب: کیمپ کا موقع یا جگہ،
کیمپ، جگہ، موقع، علاقہ، راستہ، بڑا خیمہ- کان
مضربَ المَثَل (الامثال): زبان زد خاص و عام
ہونا، مثال ہونا، سبق آموز اور عبرت انگیز ہونا، بے
مثل، فقید المثال یا منفرد ہونا، مثال کے طور پر پیش کیا
جانا- مِضْرَب جمع مضارب: بلا (bat)- لکڑی کا
ہتھوڑا، موگرا، موگری، ریکٹ (racket) (ٹینس
وغیرہ میں)- مِضْرَب جمع مضارب: چھوٹی متھنی یا
بلونی- مُضَاربة جمع مُضَاربات: سٹہ، خاموش
شراکت، محدود شراکت- إضراب جمع اضرابات:
ہڑتال- مُضَارِب جمع مُضَاربون: سٹے باز-
مُضْطَرَب: کھیل کا میدان (مجازی)- اضطرابات
عصبية: اعصابی بیماریاں-

ضرج: ١- ضَرَجَ ـضَرْجًا الثوبَ بالدم: کپڑے کو
خون آلود کرنا، خون سے لتھیڑنا- ضَرَّجَ ہُ: کو خون آلود
کرنا- ـــ الثوبَ: کپڑے کو سرخی سے رنگنا، لتھیڑنا-
ـــ انفَ بـالدم: ناک سے خون بہانا- تَضَرَّجَ
الشيءُ: چیز کا لتھڑنا- ـــ الخدُّ: رخسار کا سرخ ہونا-
الضَّريج: ہلکا سرخ رنگا ہوا- الإضريج: سرخ ریشم،
سرخ رنگ، زرد رنگ کی چادر-

٢- ضَرَجَ ـضَرْجًا الشيءَ: چیز کو پھاڑنا- تَضَرَّجَ:
پھٹنا- ـــ الزهرُ: پھول کھلنا- إنْضَرَج: پھٹنا- ـــ لنا
الطريقُ: کیلئے راستہ کا چوڑا ہونا- ـــ مابين القوم:
ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا- المِضْرَج مَضَارِج:
پھٹا پرانا مستعمل کپڑا، چیتھڑا- المَضَارِج: مشقتیں-
عينٌ مَضْرُوجَة: بڑی موٹی آنکھ-

٣- ضَرَجَ ـضَرْجًا الشيءَ إلى الارض: چیز کو زمین
پر ڈالنا- ضَرَّجَ الجيبَ: کھیلا لٹکانا- ـــ الإبلَ:
اونٹوں کو حملہ میں دوڑانا- أضرجَ الجيبَ: تھیلے کو
لٹکانا- إنْضَرَجَت العُقابُ: عقاب کا اپنے شکار پر
جھپٹنا- عَدْوٌ ضَريجٌ: تیز دوڑ- الإضْريج: تیز
دوڑنے والا گھوڑا-

٤- ضَرَّجَ الكلامَ: کلام کو آراستہ کرنا- تَضَرَّجَت
المرأةُ: عورت کا آراستہ ہونا-

٥- الضَّرْجَع جمع ضَراجِع (ح): چیتا-

٥ ضَرِجَ ـضَرَجًا ہ بالدم و ضَرَّجَ ہ بالدم: کو
خون کے دھبے ڈالنا، کو خون آلود کرنا- تَضَرَّجَ:
سرخ ہونا یا ہو جانا- مُضَرَّجَ اليدين: خون آلود
ہاتھوں کے ساتھ، جرم کرتے ہوئے یا ارتکاب جرم کی
حالت میں پکڑا ہوا-

ضرح: ١- ضَرَحَ ـضَرْحًا الشيءَ: چیز کو پھاڑنا- ـــ
القبرَ: قبر کھودنا- ـــ للميت: میت کے لئے قبر
کھودنا- إنضرحَ الشيءُ: چیز کا پھٹنا- الضَّرِيح
جمع ضَرائح: قبر-

٢- ضَرَحَ ـضَرْحًا الشيءَ: چیز کو ایک طرف کرنا،
ہٹانا- کہتے ہیں: ضَرَح شهادةَ فلانٍ عنّي: یعنی
اس نے فلاں کی میرے بارے میں گواہی کو باطل قرار
دے کر مسترد کر دیا- و ضَرَحْتُ عن الثوبَ: میں
نے کپڑا اتار ڈالا- ـــ ضَرَحًا و ضِرَاحًا ت
الدابةُ برجلها: جانور کا دولتی مارنا- ضَارَحَ ہُ:
ایک دوسرے کو تیر مارنا، گالی دینا، کے قریب ہونا اور
مقابل ہونا- أضْرَحَ ہُ: کو دور کرنا- إضْطَرَحَ
الشيءَ: کو پھینک دینا- إنْضَرَحَ ما بين القوم:
قوم کا باہمی تعلق ٹوٹ جانا، لوگوں کے درمیان
اختلافات کی خلیج وسیع ہو جانا- الضَّرْح: دوری،
وحشت- نِيّةٌ ضَرَحٌ: فاسد ارادہ- الضَّرُوح من
الدواب: دولتی مارنے والا جانور- قوسٌ ضَرُوحٌ:
تیز زور سے پھینکنے والی کمان- الضَّرِيح جمع ضَرائح:
دور، بعید-

٣- ضَرَحَ ـضُرُوحًا و ضَرَحَات السوقُ: کساد
بازاری ہونا- أضْرَحَ السوقَ: کساد بازاری کرنا-

٤- أضْرَحَ ہُ: کو خراب کرنا- الضَّرَح: خراب آدمی-

٥- الضَّرَح: جلد، کھال، چمڑا- المَضْرَحُ (ح): شکرا،
لمبے بازوؤں والا گدھ- المَضْرَحِي: شکرا، لمبے
بازوؤں والا گدھ، فیاض سردار- المِضْرَحِي: ہر سفید
چیز-

٥ ضَرِيح جمع ضَرائح و أضرحة: قبر، مقبرہ-

ضرس: ١- ضَرَسَ ـضَرْسًا الشيءَ: کسی چیز کو داڑھ
سے شدت کے ساتھ کاٹنا- کہتے ہیں: ضَرَسَهُ الدهرُ:
زمانہ اس کے لئے ناقابل برداشت ہو گیا- ضَرَسَتْهُ
الخُطُوبُ: بدقسمتیوں اور حوادث نے اس کو آزمائش
میں ڈال دیا- ـــ البئرَ: کنویں کو پتھروں سے بند کرنا-
ـــ الرجلُ: شام تک خاموش رہنا- ضَرِسَ ـضَرَسًا
ت الاسنانُ: دانتوں کا ترشی سے کھٹا ہونا- ضَرَّسَ ہ
الزمانُ: کو زمانہ کا آزمائش میں ڈالنا- ـــ تْہُ
الحروبُ او الايامُ: جنگوں یا دنوں کا کسی کی
آزمائش کر کے تجربہ کار بنا دینا- ضَارَسَ الامورَ: کا
تجربہ کرنا اور جاننا- ـــ ہُ: سے جنگ کرنا، دشمنی کرنا-
أضْرَسَ ہُ بالكلام: کو باتوں سے خاموش کر دینا-
ـــ ہُ: کو رنجیدہ کرنا- ـــ الحامضُ الاسنانَ: ترشی کا
دانتوں کو کھٹا کر دینا- تَضَارَسَ القومُ: ایک دوسرے
سے لڑنا، دشمنی کرنا- ـــ البناءُ: عمارت کا ناہموار ہونا-
الضِّرس جمع أضراس ضُرُوس (ع ا): داڑھ
دانت، مشہور یہ ہے کہ نچلے جبڑے میں دونوں طرف
پانچ یا چار داڑھیں ہیں- ـــ جمع ضُرُوس: کنواں
پاٹنے کا پتھر، دشوار چڑھائی والا ٹیلہ- الضَّرِس: سخت
مزاج، تجربہ کار، جنگجو اور مسافر، بھوک کے سبب
غضبناک- الضَّرُوس من النوق: وہ بدخلق اونٹنی جو
دوہنے والے کو کاٹے- حربٌ ضروسٌ: سخت مہلک
جنگ- الضريس جَرَاسَي: پیچ کے منکے، پتھروں
سے پاٹا ہوا کنواں، بھوکا- ـــ المُضَرَّس (مفع):
مصیبت زدہ- ـــ من الوشي: وہ کپڑا جس پر دانتوں
کی طرح کے نقوش ہوں- رجلٌ مُجَرَّس مُضَرَّس:
تجربہ کار- التَّضْرِيس جمع تَضَارِيس: یاقوت یا
موتی یا داڑھ کی طرح کے لکڑی کے ٹکڑے میں چیرا-
تضاريس الارض: دانتوں کی طرح زمین کی باہر نکلی
ہوئی بلندیاں-

٢- الضَّرْس جمع ضُرُوس: تھوڑی سی بارش- کہتے ہیں:
وقعت في الارض ضُرُوسٌ من مطر: زمین پر
کہیں کہیں تھوڑی سی بارش ہوئی-

ضرص: الضُّرْضُم (ح): شیر- نر (درندہ)-

٥ ضَرَسَ - ضَرْسًا ہ: کو سختی سے دانتوں سے کاٹنا-
ضَرِسَ ـضَرَسًا: (دانتوں کا) ترش چیزیں کھانے
یا پاچنے سے کند ہو جانا- ضَرَّسَ ہ: کو سختیاں جھیل سکنے
والا بنانا، جنگجو بنانا- ـــ و أضْرَسَ الاسنانَ: (ترش
اشیاء ماکولات و مشروبات کا) دانتوں کو کند کر دینا-
ضِرس جمع أضراس و ضروس: ڈاڑھ- ضِرس
العقل: عقل داڑھ- حرب ضَرُوس: شدید
قاتلانہ جنگ- تضاريس الارض: سطوح مرتفع،
زمین کے نشیب و فراز- تضاريس الوجه: چہرے
کی جھریاں-

ضرط: ١- ضَرَطَ ـضَرْطًا و ضَرِطًا و ضُرَاطًا و
ضَرِيطًا: گوز کرنا، پاد مارنا- ضَرَّطَ الحمارَ:
گدھے کا بہت گوز کرنا- ـــ و أضْرَطَ الحمارَ:
گدھے سے ایسا کام لینا کہ اس کا گوز خارج ہو
جائے- ـــ بفلان: سے ٹھٹھے کے طور پر منہ سے گوز کی سی
آواز نکالنا- الضُّرَاط و الضَّرُوط و الضِّرَّوْط:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گوز کرنے والا، بہت گوز کرنے والا۔
۲۔ ضَرِطَ ۔ضَرَطًا: ہلکی داڑھی اور باریک ابرو والا ہونا۔ صفت: أضْرَط۔
۳۔ مُضَرِّطُ الحجارة: حیرہ کے بادشاہ عمرو بن ھند کا لقب۔

ضرع: ضَرَعَ ۔ضُرُوعًا من الشيء: سے قریب ہونا۔ ـــ ت الشمسُ: آفتاب کا غروب ہونا یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ ضَرَّعَ من فلان: چپکے چپکے کسی کے قریب آنا۔ ـــ الشمسُ: سورج کا غروب ہونا یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ ـــ ت القِدرُ: ہانڈی کا پکنے کے قریب ہونا۔ ـــ الرُبَّ: شیرہ کو اچھی طرح نہ پکانا۔ ضارَعَ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے لگنا۔ ـــ ت القِدرُ: ہانڈی کا پکنے کے قریب ہونا۔ تضَرَّعَ: چپکے چپکے قریب آنا۔ - الظل: سایہ کا سکڑنا۔
۲۔ ضَرَعَ ۔ضَرْعًا فرسَهُ: گھوڑے کو سدھانا۔ ضَرَاعَةً و ضَرِعَ ۔ضَرَعًا و ضَرُعَ ۔ضَرَاعَةً: کمزور ہونا۔ ـــ اليه: سے فروتنی کرنا، انکساری کرنا صفت: ضَارِع و ضَرِع۔ جمع ضَارِعُون و ضُرُوع و ضَرَعَة۔ اَضرَعَ الرجلَ: کو ذلیل کرنا۔ ـــ ت الحُمَّى فلانًا: بخار کا کسی کو کمزور کر دینا۔ اسی سے یہ مثل ہے: الحمّٰی أضرَعتني للنوم: بخار نے مجھے نیند کے آگے ذلیل کر دیا۔ ضرورت کے وقت ذلیل ہونے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ ـــ ته الحاجة إلى فلان: ضرورت کا کسی کو اپنے معاملات سپرد کر دینا۔ - لفلان مالًا: کے لئے مال خرچ کرنا۔ تضَرَّعَ: فروتنی کرنا، انکساری کرنا، ذلیل ہونا۔ - إلى اللّٰه: اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا۔ اِسْتَضْرَعَ له: سے انکساری کرنا، کے سامنے ذلیل ہونا۔ الضَرَع (مص): کمزور، بزدل۔ کہتے ہیں: رجلٌ ضَرَعٌ: بزدل مرد۔ قوم ضَرَعٌ: بزدل لوگ۔ الضارِع: کمزور، نحیف، ہر چھوٹی چیز۔ الأضرَع: کمزور، نحیف۔ الضرُوع: ذلیل۔
۳۔ ضَارَعَهُ: کے مشابہ ہونا۔ تضارَعَا: دو کا ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ الضِرْع جمع ضُرُوع: مثل مانند۔ المُضَارِع: مشابہ، وہ فعل جو زمانہ حال و مستقبل دونوں کے معنی دے اور ماضی پر انَیتُ میں سے ایک حرف زائد کرنے سے بنتا ہے۔ علم عروض کی ایک بحر کا نام۔
۴۔ اضرعَ ت الشاةُ: بکری کے تھنوں کا نمودار ہونا یا بڑا ہونا۔ (صفت: ضَرْعاء و ضُرُوع و ضَرِيع وضَرِيعه: بچہ پیدا ہونے سے پہلے دودھ اتر آنا۔ الضَرْع جمع ضُرُوع: تھن۔ (گائیوں بھیڑ بکریوں کا جیسے عورت کا پستان: الثدی)۔ الضَرْعاء و الضريعة من الشاء و البقر: بڑے تھن والی بکری یا گائے۔ الضَرُوعُ: بڑے تھن والی بکری یا گائے۔
۵۔ الضِرْع جمع ضُروع: قوت حمل۔
○ ضَرْع جمع ضُرُوع وضِراع: تھن۔ الزرع و الضرع: کاشتکاری اور مویشی پالنا۔ ضِرْع: جیسا، مانند، مثل۔ ضَرَاعَة: فرمانبرداری، اطاعت شعاری، انقیاد، عاجزی، انکساری، فروتنی، عجز و انکسار، التجاء، بھیک مانگنا۔ مضارعة: مشابہت، مماثلت۔ ضارِع: کمزور، اخلاقی لحاظ سے کمزور۔ تضرع: التجاء کرنا، بھیک مانگنا، التماس۔

ضرغ: ضَرْغَمَ و تضَرْغَمَ: شیر کا سا کام کرنا، شیر کے مشابہ ہونا۔ الضَرْغَم جمع ضَرَاغِم (ح): شیر۔ الضِرْغام و الضِرغامة (ح): شیر، بہادر، طاقتور۔

ضرف: ۱۔ الضَرْف عند العامة: گھی یا تیل رکھنے کا چمڑے وغیرہ کا برتن، اس کا مترادف (زق) مشک ہے، صحیح ظرف ہے۔ الضَرْفة: کثرت۔ کہتے ہیں: هو في ضرفةِ عيشٍ: وہ آسودہ حال ہے۔
۲۔ ضَرْفَطَهُ بالحبل: کو رسیوں میں جکڑنا۔

ضرك: ضَرُكَ ۔ضَرَاكَة: بے وقوف یا موٹا اور توانا ہونا۔ الضِراك: موٹا آدمی، مضبوط توانا آدمی۔ (ح): شیر۔ الضَرِيك جمع ضَرائك و ضُرَكاء: بے وقوف، اندھا، سدا روگی، زبوں حال غریب شخص۔ (ح): نرگدھ۔

ضرم: ۱۔ ضَرِمَ ۔ضَرَمًا: سخت بھوکا یا غضبناک ہونا۔ - عليه: پر غصہ سے بھڑکنا۔ ـــ في الطعام: حرص سے کھانا۔ تضَرَّمَ الرجُل عليه: پر غصہ سے بھڑکنا۔ الضَرَم (مص): بھوک کا غصہ۔ الضَرِم: بھوکا۔
۲۔ ضَرِمَ ۔ضَرَمًا ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ ضَرَّمَ و اَضْرَمَ و اسْتَضْرَمَ النارَ: آگ جلانا اور روشن کرنا۔ تضَرَّمَ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ اِضْطَرَمَ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ ـــ المَشِيبُ: بڑھاپا نمودار ہونا۔ الضَرَم: ایندھن، اس سے مثل ہے: نفخت في غير ضَرَم: جب کوئی بے نتیجہ یا بے فائدہ کام کیا جائے تو اس وقت یہ مثال بولی جاتی ہے۔ الضَرَمَة جمع ضَرَم: چنگاری، آگ، کہتے ہیں: ما في الدار نافخ ضَرَمةٍ: یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں۔ الضِرام: بھڑک، جلن، چھپٹی۔ الضِرَامة: جلتی ہوئی لکڑی۔ الضِرِيم: جلا ہوا۔
۳۔ الضَرَم (ن): لیونڈر کا درخت۔ الضِرم (ن): لیونڈر کا درخت۔ (ح): عقاب کا چوزہ۔ الضَرَم (ح): عقاب کا چوزہ۔ الضِرَام: وسیع میدان۔ الضِرَامَة (ن): بطم کا درخت۔ الضَرِيم: ایک قسم کا گوند۔
○ ضَرِمَ ۔ضَرَمًا: آگ پکڑنا، آگ لگنا، جلنا، جل اٹھنا، بھڑکنا، (جنگ کا) یکایک لگ جانا؛ شروع ہونا یا پھیلنا، بھڑکنا۔ ضَرَّمَ (ہ): آگ جلانا، روشن کرنا۔ ضَرَّمَ النار في: کو آگ لگانا۔ اضرَمَ بمعنی ضَرَّمَ۔ تَضَرَّمَ: جلنا، جل اٹھنا، شعلے نکلنا، غصے سے لال پیلا ہونا، (جذبات) کا شعلہ فشاں ہونا۔ ضِرام: آگ، بھابھڑ۔ اضطرام بمعنی ضِرام۔ مُضْطَرِم: جلتا ہوا، شعلہ فشاں۔

ضرا: ضَرَا ۔ضُرُوًّا العِرق: رگ سے بغیر رکے خون نکلنے لگنا۔ ضَرِيَ يَضْرَى ضَرَاوَةً و ضَرًى و ضُرِيًا و ضَرَاءَةً بالشيء: کسی چیز کا بہت شوق رکھنا، حریص ہونا۔ ـــ ضَرًى و ضِرَاءً و ضَرَاءً الكلبُ بالصيد: کتے کا شکار کا خوگر ہونا، گوشت اور خون کھا پی جانا، صفت: ضَرٍ و ضارٍ ضارِيَة جمع ضَوَارٍ۔ ـــ ضَرِيَ النبيذُ: شراب کا تیز ہونا۔ ضَرَّى الكلبَ بالصيد: کتے کو شکار کا عادی بنانا اور سدھانا۔ أضْرَى الكلبَ بالصيد: بمعنی ضَرَّى الكلب بالصيد۔ - الرجُلُ: جھاگ والی نبیذ پینا۔ الضِرُوم ضِرْوَة جمع ضِرَاء و اضْرٍ: شکاری کتا۔ الضَرَى (مص): لڑائی کی تیزی۔ ضراوة الحرب: جنگ کی تیزی۔ حربٌ ضارية: شدید جنگ۔ الضَرِيّ: ایک قسم کی شراب۔ الضارِي من الآنية: شراب کا برتن۔ الضواری جمع الضاری کی - من الحيوانات: درندے۔
۲۔ ضرا ۔ضُرُوًّا الرجُلُ: چھپنا۔ اِسْتَضْرَى للصيد: شکار کو بے خبری میں پکڑنا۔ الضَرَاء: پوشیدگی۔ کہتے ہیں: هو يمشي الضراء: وہ درختوں کے پیچھے چھپ کر چلتا ہے) گنجان، گھنا درخت، وسیع کھلا میدان
○ ضَرِيَ ہ ب: کو کے ساتھ لڑنے پر اکسانا۔ ضَرَاوة: لالچ، طمع، بہت بھوکا ہونا، لذیدہ ہونا، بہت شائق ہونا۔ ضَارٍ: بہت بھوکا، ندیدہ، بلا کا شائق، سخت لالچی، حریص، سفاک، وحشی جمع ضَوَارٍ: درندے، غارت گر جانور واحد ضارٍ۔

ضرى: ضَرَى ۔ضَرْيًا العرقُ بالدم: رگ سے خون بہنا۔ صفت: ضَرِيّ۔

ضزّ: ۱۔ ضَزَّ ۔ضَزَزًا: تنگ باچھوں والا ہونا۔ أضَزَّهُ: کو پینا۔ ـــ عليه: پر بخل کرنا۔ الأضَزّ جمع ضُزّ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تنگ باچھوں والا، داڑھوں کے ملنے کی وجہ سے صاف بات نہ کر سکنے والا۔

۲۔ الاضزّ جمع ضزّ: بدخلق۔ المِضزّ: بدخلق، غضبناک۔

ضزن: ضَزَنَ ـَـ ضَزْناً ہُ: سے کچھ چھیننا۔ تضازَنَ القومُ: کسی چیز پر قبضہ کیلئے جھگڑنا۔ الضَیْزَن: قابل وثوق محافظ انسان کے بال بچے، شریک، پانی بھرتے ہوئے جھگڑنے والا۔

ضعّ: ضَعْضَعَ ہُ: کو گرا کر زمین کے برابر کر دینا۔ تَضَعْضَعَ: ذلیل ہونا، فرمانبرداری کرنا۔ (کہتے ہیں: تَضَعْضَعَ بہ الدھرُ: زمانہ نے اُسے ذلیل کر دیا) کمزور ہونا، بیماری یا غم سے کمزور اور خفیف الجسم ہو جانا۔ ـــ مالُہٗ: کا مال کم ہو جانا، تھوڑا ہو جانا۔ الضُعضُع و الضعضاع: ہر کمزور چیز، بے رائے و تدبیر آدمی۔ الضَعْضَعَة (مص): شدت، انکساری۔

○ ضَعْضَعَ ہ: کو مسمار کرنا، تباہ کرنا، گرانا، کی اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کرنا، کو کمزور کرنا۔ تضعضع: کمزور ہونا، روبتنزل ہونا، زوال میں آنا، برباد ہونا، شکستہ ہونا، فنا ہونا، کمزور یا کمزور تر ہونا، روبہ انحطاط ہونا، (تنظیم وغیرہ) کا ٹوٹنا، برخاست ہونا۔ ضَعْضَعَة: مسماری، جڑیں کھوکھلی کرنا، ضعف، ناتوانی، خرابی، صحت، ارادے کی کمزوری، ضعف ہمت، کمزوری۔ ضَعْضَعَةُ الکِبَر: ضعیفی، سٹھیا جانا، سٹھیاپا۔ متضعضِع: شکستہ، زوال میں آیا ہوا، کمزور، ناتواں، فرمانبردار، منقاد، منکسر المزاج۔

ضعط: ضَعَطَ ـَـ ضَعْطاً ہُ: کو ذبح کرنا۔

ضعف: ۱۔ ضَعَفَ ـُـ ضُعْفاً و ضَعْفاً و ضَعُفَ ـُ ضَعافَةً و ضَعافِيَةً: کمزور ہونا، ناتواں ہونا۔ ضَعَّفَ ہُ: کو کمزور کرنا۔ ـــ الحدیثَ: حدیث (بات) کو ضعیف کی طرف منسوب کرنا۔ و تَضَعَّفَ و استضعَفَ ہُ: کو ضعیف پانا یا خیال کرنا۔ أضْعَفَ ہُ: کو کمزور کرنا۔ صفت مفعولی مَضعوف: جب کہ قیاس کے مطابق مُضعَف ہونا چاہیئے، اسکی مثال یہ قول ہے: أسعَدَہُ اللہ: چنانچہ وہ شخص مسعود کہلاتا ہے نہ کہ مُسْعَد۔ ـــ الرجلُ: کمزور جانوروں والا ہونا۔ الضُعف: کمزوری، ناتوانی (عوام کے نزدیک) مرض۔ الضَعف: کمزوری۔ الضُعف: کمزوری، عقل اور رائے کی کمزوری۔ الضُعفان جمع ضَعافی و الضَعُوف: کمزور۔ الضعیف جمع ضِعاف و ضُعَفاء و ضَعَفَة و ضَعفَی م ضعیفة: کمزور۔ ـــ من الکلام: درجۂ فصاحت سے گرا ہوا کلام۔ (عوام کے نزدیک): مریض۔ کہتے ہیں ھُوَ ضعیف: یعنی وہ بیمار ہے۔ ارضٌ مُضَعَّفَةٌ: وہ زمین جہاں ہلکی بارش ہوئی ہو۔

۲۔ ضعف ـَـ ضَعْفاً القومَ: سے زیادہ ہونا، دوگنا یا کئی گنا ہو جانا۔ ـــ الشيءَ: کو دو چند کرنا۔ ضَعَّفَ و ضاعَفَ و أضعَفَ ہُ: کو دوگنا کرنا، دو چند کرنا۔ تَضاعَفَ الشيءُ: دو چند ہونا۔ ضِعْفُ الشيء جمع أضعاف: دوگنا، دو چند۔ لوگوں کا کہنا ہے: لکَ ضِعْفُہُ: تمہارے لئے اس کا دوگنا یا تین گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کہنا جائز ہے: ھذا ضِعفُ ھذا: یہ اس جتنا ہے۔ ھذا ضِعفاہُ: یہ اس کا دوگنا یا دوچند ہے۔ أضعافُ الکتاب: کتاب کی سطور کا درمیانی فاصلہ۔ الاضعاف من الجسد: جسم کے اعضاء یا ہڈیاں۔ مُضاعَف: دو چند، دوگنا (کیا ہوا) کئی گنا کیا گیا۔ المُضاعَفَة من الدروع: ایسی زرہ جس کے حلقے دہرے دہرے ہوں۔

○ ضَعُفَ ـُ ضُعْفاً و ضَعْفاً: کمزور ہونا، یا ہو جانا، نرم و نازک ہونا، شکستہ ہونا یا ہو جانا، بے بس ہونا یا ہو جانا، نامرد ہونا یا ہو جانا، مردہ دل، پژمردہ ہونا یا ہو جانا، کم ہونا یا ہو جانا، گھٹنا یا گھٹ جانا۔ أضعَفَ (ہ/ ہ/من): کو کمزور کرنا، لاغر کرنا، ناتواں بنانا، مضمحل کرنا، پر ضعف طاری کرنا۔ استضعَفَ ہ: کو کمزور سمجھنا، کیساتھ تکبر سے پیش آنا۔ ضُعف و ضَعف الارادہ: ارادہ کی کمزوری۔ الضعف العصبی: اعصابی کمزوری۔ ضعف التناسل: نامردی۔ ضعیف الارادۃ: کمزور ارادے والا۔ ضعیف العقل: کمزور دماغ والا۔ ضعیف القلب: کمزور دل۔ ھذا الضعیف: یہ ناچیز (اظہار انکسار کے طور پر) مُستَضعَف: جسے کمزور سمجھا گیا، مظلوم، مصیبت زدہ۔ ضَعَّفَ و ضاعَفَ ہ: کو دوگنا کرنا، شدید تر کرنا، کئی گنا کرنا۔ تَضاعَفَ: دوگنا ہونا، دو چند ہونا، کئی گنا ہونا۔ ضِعف جمع اضعاف: دوگنا، دوچند، کئی گنا۔ منہ ضِعفُفہ: کا سوگنا۔ ثلاثۃ اضعافِہ: کا تین گنا۔ أضعاف اضعافہ: کا کئی گنا۔ اضعافاً مضاعفۃ: کئی گنا، سوگنا۔ تضاعیف: تحریر کے ٹکڑے کا مضمون، مافیہ، متن، تہیں سطروں کے درمیان جگہ۔ فی تضاعیفہ: کے اندر، پر مشتمل۔ مضاعفۃ: دوگنا یا کئی گنا ہونا یا کرنا۔ مضاعفات: (بیماری) کی پیچیدگیاں۔ تضاعف: دوگنا یا کئی گنا ہونا۔ مُضعَّف: دوگنا، کئی گنا۔ مُضاعَف: دوگنا، کئی گنا۔

ضعل: ضَعِلَ ـَـ ضَعَلاً: ماں باپ کے آپس میں قریب النسب ہونے سے بچہ کا پتلے جسم والا ہونا۔

ضعا: ضَعا ـُـ ضَعْواً: چھپنا، پوشیدہ ہونا۔

ضغّ: أضغّت الارضُ: زمین کا سرسبز و شاداب ہونا۔ ـــ القومُ: سرسبز باغ میں ہونا۔ اِضطغّت الارضُ: زمین کا سرسبز و شاداب ہونا۔ الضَغیغ: سرسبزی، شادابی، تروتازگی۔ الضغیغة: سرسبز و شاداب باغ، آسودہ و خوش حال زندگی، پتلا گوندھا ہوا آٹا، مخلوط لوگوں کی جماعت۔

۲۔ ضَغضَغ الشیخُ اللقمةَ: بے دانت بوڑھے کا لقمہ کو چبانا، مسوڑھوں سے لقمہ چبانا۔ ـــ الرجُلُ: غیر واضح کلام کرنا۔ ـــ الکلامَ: کلام کو زیادہ کرنا۔

ضغب: ۱۔ ضَغَبَ ـَـ ضَغْباً: بھیڑیے یا خرگوش کی طرح آواز نکالنا، ڈرانا۔ الضغیب و الضغاب: خرگوش اور بھیڑیے کی آواز۔

۲۔ الضُغبوس جمع ضَغابیس (ح): لومڑی کا بچہ، کمزور آدمی۔

ضغث: ضَغَثَ ـَـ ضَغْثاً الحدیثَ: گفتگو کو خلط ملط کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو دھوتے ہوئے اچھی طرح صاف نہ کرنا۔ ضَغَثَ النباتَ: سبزی کے مٹھے بنانا۔ اضغَثَ الحالمُ الرؤیا: خواب دیکھنے والے کا اپنا خواب گڈمڈ کر کے بیان کرنا۔ اِضطغَثَ الحطبَ: لکڑیاں اکٹھی کرنا، جمع کرنا۔ الضِغث جمع أضغاث: سبز و خشک گھاس کا مٹھا۔ ـــ من الخبر و الامر: گڈمڈ اور بے حقیقت خبر یا معاملہ۔ أضغاثُ أحلام: گڈمڈ، غیر واضح خواب جن کی حقیقت بیان نہ کی جا سکے۔ اس سے مثل ہے: ضِغثٌ علی إبّالۃ: مصیبت پر مصیبت، سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ کلام ضغثٌ و ضغثٌ: نامبارک کلام۔ التضغیث (مص): بارش جس سے زمین اور نباتات بھیگ جائیں۔

○ ضَغَثَ ـَـ ہ: (قصہ) کو گڈمڈ کرنا۔ اضغاث الاحلام: گڈمڈ خواب۔ زادَ ضِغثاً علی إبّالہ: کسی چیز یا بات کو زیادہ خراب کر دینا۔

ضغط: ضغط ـَـ ضغطاً و اضغطہُ: بھینچنا، نچوڑنا، بھیڑ کرنا، دبانا۔ نئے ادباء اس فعل کو علی کے صلہ سے متعدی بناتے ہیں۔ اور ضغطہ کے بجائے ضغط علیہ کہتے ہیں۔ ضاغطَ ضِغاطاً و مُضاغَطَةً ہُ: ایک دوسرے کو بھینچنا، تنگ کرنا۔ تَضاغَطوا: ایک دوسرے کو بھینچنا، تنگ کرنا۔ اِنضغط: مغلوب ہونا۔ اِضتغط علیہ: (قیاس کے مطابق اضطغط): پر سختی کرنا۔ الضُغطۃ: تنگی، مجبوری، سختی، بے آرامی۔ کہتے ہیں: اخذت فلاناً ضُغطة: تو نے اس پر سختی کی تا کہ اسے مشکلات

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

میں پھنسائے۔ الضَّغْطَة: اضطرار، تنگی، مصیبت،
قہر۔ ضَغْطَة القبر: قبر میں میت پر تنگی۔ الضاغِط
(فا): محافظ، نگہبان۔ الضاغُوط: کابوس کی بیماری۔
الضغيط جمع ضَغْطَى م ضغيطة: کمزور رائے
والا۔ المَضْغَط جمع مَضاغِط: پست زمین۔
المِضْغَط: کمپریسر (compressor)۔
○ ضَغَطَ ـضَغْطًا (ہ/ ہ): کو دبانا، نچوڑنا۔ ـ (ہ): کو
سکیڑنا۔ ـ علی: پر دباؤ ڈالنا، کو کچلنا، دبا دینا، روکنا،
روک دینا، ممنوع قرار دینا، پچھاڑنا، زیر کرنا، پر بوجھ
ڈالنا۔ انضغط: دبنا، نچڑنا، سکڑنا۔ ضَغْط: دباؤ،
داب، تاکید، زور، کچلنا، امتناع، خاتمہ، دولٹیج
voltage، کھچاؤ۔ الضغط الجوی: فضائی دباؤ۔
ضغط الدم و الضغط الدموی: بلڈ پریشر۔
ضغط الهواء: ہوا کا دباؤ۔ تحت ضغط الرای
العام: رائے عامہ کے دباؤ کے تحت۔ ضُغْطَة:
دباؤ۔ ضُغُوطِية: (ہوا کا) دباؤ۔ ضاغُوط: کابوس۔
مَضاغِطُ هَوائِيَة: کمپریسرز compressors۔
تضاغط: دباؤ، داب۔ انضغاط: دباؤ اور سکڑنے
کی قابلیت۔ آلةٌ ضاغِطَة: کمپریسر compressor
هواء مضغوط: سکڑی ہوئی ہوا compressed
air۔

ضغم: ضَغَمَ ـضَغْمًا الشیءَ و به: کو دانتوں سے
کاٹنا۔ کہتے ہیں: ضَغَمَهُ ضَغْمَةَ الأسد: اُس نے
اُسے دانتوں سے خوب کاٹا۔ الضُّغامَة: دانتوں سے
کاٹ کر پھینکی ہوئی چیز۔ الضَّيْغَم جمع ضَياغِم:
دانتوں سے کاٹنے والا۔ و الضَّيْغَمِيّ (ح): شیر۔

ضغن: ۱۔ ضَغِنَ ـضَغْنًا علیه: سے کینہ رکھنا۔ ضاغَنَ
ہُ: سے کینہ رکھنا۔ تضاغَنَ و إضْطَغَنَ القومُ: ایک
دوسرے سے کینہ رکھنا۔ کہتے ہیں: اضطغن فلانٌ علی
فلانٍ ضغينةً: یعنی فلاں نے فلاں کے خلاف کینہ
اپنے دل میں رکھا۔ الضِّغْن جمع أَضْغان: کینہ۔
الضاغِن و الضَّغِن: کینہ ور۔ الضَّغِينَة جمع
ضَغائِن: کینہ۔
۲۔ ضَغِنَ ـضَغْنًا الیه: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔
الضِّغْن جمع أَضْغان: شوق، جھکاؤ، میلان، کجی۔
فرسٌ ضاغِن: منہ گھوڑا جو بغیر مارے نہ چلے۔
فرس ضغِن: منہ گھوڑا جو بغیر مارے نہ چلے۔ عُودٌ
ضَغِن: ٹیڑھی لکڑی۔
۳۔ إضْطَغَنَ ہُ: کو بغل کے نیچے لینا۔ الضِّغْن جمع
أَضغان: گود، بغل۔
۴۔ الضِّغْن جمع أَضغان: جانب، پہاڑ کا پہلو۔

○ ضَغِنَ ـضَغْنًا علی: کے خلاف بغض رکھنا، کینہ رکھنا،
کے خلاف دل میں نفرت رکھنا، پر برہم ہونا۔
تَضاغَنَ: ایک دوسرے کے خلاف بغض و کینہ رکھنا۔
ضِغْن جمع أضغان و ضغينة جمع ضَغائِن: کینہ،
بغض، عناد، بدباطنی، کینہ جوئی، بدخواہی، کسی کا برا چاہنا،
دلی نفرت۔ ضَغِن: بغض پرور، کینہ جو، بدخواہ، کینہ ور،
کینہ پرور، برا ماننے والا، برہم۔

ضغا: ۱۔ ضَغَا ـضَغْوًا المقامِرُ: جواری کا خیانت کرنا۔
۲۔ ضَغَا ـضَغْوًا إلیه: کی اطاعت اختیار کرنا،
فرمانبرداری کرنا، کے آگے ذلیل ہونا۔ ـ ضَغْوًا و
ضُغاءً السنورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ تَضاغی:
بھوک یا مار سے اینٹھنا اور چلانا۔ الضُّغاء (مص):
ذلیل آدمی کی آواز۔

ضفّ: ۱۔ ضَفَّ ـضَفًّا و ضَفَفًا القومُ علی الماءِ و
الطعام: پانی یا کھانے پر بھیڑ کرنا۔ ـ ضَفَّا الشیءَ:
چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تَضافَّ القومُ: بھیڑ کرنا۔
الضَّفَّة: جماعت۔ عینٌ ضَفُوفٌ: بہت پانی والا
چشمہ۔ الضَّفِيف: کہتے ہیں: هو من لفيفنا و
ضفيفنا: وہ ان لوگوں میں سے ہے، جن کی مصیبت
کے وقت ہم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ ماءٌ
مَضْفُوف: وہ پانی جس پر بہت بھیڑ لگے۔
۲۔ تَضافَّ القومُ: کم مال والا ہونا۔ ضَفُّ الحال:
بدحال، زبوں حال والا۔ الضَّفَف: مال کی قلت،
عیال کی کثرت، حاجت، کمزوری۔ الضَّفافة: بے
عقل۔
۳۔ الضَّفَّة و الضِّفَّة جمع ضِفاف: دریا کا کنارہ، سمندر کا
ساحل۔ الضَّفَف: کام میں جلد بازی۔
۴۔ ضَفْضَفَةُ القوم: لوگوں کی جماعت، گروہ۔
○ ضَفَّة: بھیڑ، ہجوم، انبوہ، ازدحام، (لوگوں کا)۔ ضَفَف:
غربت، افلاس، بے نوائی۔

ضفد: ۱۔ ضَفَدَ ـضَفْدًا ہُ: کو تھپڑ مارنا۔
۲۔ ضَفْدَعَ الماءُ: پانی کا مینڈکوں والا ہونا۔ ـ الرجُلُ:
سکڑنا، کوز کرنا۔ الضِّفْدِع جمع ضفادِع و ضَفادِی:
(جو بہت کم مستعمل ہے) واحد ضِفدِعَة (ح): مینڈک
○ ضِفْدِعٌ بشریٌّ: آبدوز سپاہی (frogman) (فوجی
اصطلاح)

ضفرا: ۱۔ ضَفَرَ ـضَفْرًا و ضَفَّر الحبْلَ: رسی بٹنا۔ ـ
الشَّعَرَ: بال گوندھنا۔ إنْضَفَرَ: گندھا ہوا ہونا، بٹا ہوا
ہونا۔ کہتے ہیں: إنْضَفَر الحبلان: دو رسیاں آپس
میں بٹ گئیں۔ الضَّفْر (مص) جمع ضُفُور و
أَضْفُر: [illegible]

لٹ یا زلف، ریت کا ایک بڑا تودہ۔ الضِّفار جمع
ضُفُر: کجاوہ کا تنگ۔ الضَّفِرَة: ریت کا ایک بڑا
تودہ یا ڈھیر۔ کنانة ضَفِرة: بھرا ہوا ترکش۔ الضفير:
گندھے ہوئے بالوں کی رسی، ساحل سمندر، کجاوہ کا
تنگ۔ الضَّفِيرَہ جمع ضَفائِر: زلف، کہتے ہیں:
کنانةٌ ضَفِيرَة: بھرا ہوا ترکش۔
۲۔ ضَفَرَ ـ ضَفْرًا البناءَ: پتھروں سے عمارت کو بغیر
چونے اور گارے کے بنانا۔
۳۔ ضَفَرَ ـضَفْرًا و ضَفَّر الرجُلُ: دوڑنے میں کودنا۔
۴۔ ضَفَرَ ـضَفْرًا و ضَفَّر الدابَةَ: جانور کے منہ میں
لگام ڈالنا۔
۵۔ ضافَرَہُ علی الامر: کی کام میں مدد کرنا۔ تضافروا
علی الامر: کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا
○ ضَفَرَ ـضَفْرًا ہ: (بالوں کو) گوندھنا، (بالوں کی)
چوٹی کرنا، چٹیا کرنا۔ ـ ہ: کسی چیز کو گوندھنا، بٹنا، بل
دے کر ایک کرنا۔ ـ ہ: (رسی) کو بٹنا۔ ضَفَّرَ
بمعنی ضَفَرَ۔ ضافَرَہُ: کی مدد کرنا، کا ہاتھ بٹانا، کو
مدد دینا، کی اعانت کرنا۔ تَضافَر علی: کچھ کرنے
میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تَضافَر: مضبوطی سے
بٹا ہوا ہونا، گندھا ہوا ہونا، مربوط ہونا، بندھا ہوا ہونا،
جڑا ہوا ہونا (مع: کے ساتھ) (گواہی کا) مربوط
ہونا۔ ضَفْر جمع ضُفُور: (زین کا) تنگ۔ ضِفار جمع
ضُفُر: (زین کا) تنگ۔ ضَفِيرة جمع ضَفائِر: چوٹی
(گندھے ہوئے بال) بالوں کی لٹ، زلف، گیسو،
کاکل، جھالر، کلابتون، لچھا، لڑ، گچھا۔

ضفز: ۱۔ ضَفَزَ ـضَفْزًا: کودنا، پھاندنا۔ ـ فلانًا: کو
دفع کرنا، کو ہاتھ پاؤں سے مارنا۔ ـ الفرسَ: گھوڑے
کو لگام دینا۔ ـ البعیرَ: اونٹ کے منہ میں زبردستی
لقمہ ڈالنا۔ إضْطَفَزَہُ: کے منہ میں اسکی کراہت کے
باوجود لقمہ ڈالنا۔ الضَّفِز: کچلا ہوا جو جو اونٹ کو بطور
چارہ دیا جاتا ہے۔ الضَّفّاز: چغل خور۔ الضَّفِيزة
جمع ضَفائِز: بڑا لقمہ۔

ضفط: ۱۔ ضَفَطَ ـضَفْطًا ہُ بالحبل: کو رسی سے
مضبوط باندھنا، جکڑنا۔ الضافِط (فا): قریب کا
مسافر۔ الضافِطة: الضافِط کا مؤنث، لاد و اونٹ،
شتربان، رذیل لوگ۔ الضَّفّاط و الضِّفَطّ و
الضَّفِيط: شتربان، رذیل شخص۔
۲۔ ضَفَطَ ـضَفْطًا الرجُلُ: اپنی حاجت پوری کرنا۔ ـ
بِسَلْحِه: پاخانہ کرنا۔
۳۔ ضَفُطَ ـضَفاطَةً: ڈھیلے اور بڑے پیٹ والا ہونا۔
تَضافَطَ اللحمُ: گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔ الضَّفّاط

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

والضَفِط و الضَفِيط: بڑے پیٹ والا، ڈھیلا ڈھالا موٹا۔ الضَفَنَّط: ڈھیلا ڈھالا موٹا، بڑے پیٹ والا۔

۴۔ ضَفَطَ ـضَفَاطَةً: جاہل اور کمزور رائے والا ہونا۔ الضَفطَه: جہالت۔ رائے کی کمزوری الضَفَاط و الضِفِطّ و الضَفِيط: بے وقوف۔

۵۔ الضَافِطَة: رذیل لوگ۔ الضَفَّاط و الضِفطّ و الضَفِيط: بوجھل شخص۔ الضُفَّاط: رذیل لوگ۔

ضفن: ۱۔ ضَفَنَ ـضَفناً إليه: کسی کے پاس جا کر بیٹھنا۔ـــ بحاجته: اپنی ضرورت پوری کرنا۔ـ مع الضعيف: کمزور کے ساتھ آنا۔

۲۔ ضَفَنَ ـضَفناً برجله: لات مارنا۔ـ به الارضَ: کو زمین پر گرانا۔ـ فلاناً: کسی کے سرین پر لات مارنا۔

۳۔ ضَفَنَ ـضَفناً عليه: پر ظلم کرنا۔

۴۔ الضِفَنّ و الضِفَنّ: بے وقوف، چھوٹے قد والا موٹا۔

ضفا: ضَفَا ـضَفُوًا الرأسُ: سر کا بہت بالوں والا ہونا۔ ـــ الحوضُ: حوض کا کناروں پر سے بہنا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا لمبا چوڑا ہونا۔ صفت: ضَافٍ۔ الضفا تثنیہ ضَفَوَان: پہلو، جانب۔ ضَفوَةُ العيش: مرفہ الحالی۔ سرفہ حالی۔

◯ ضَفَا ـضَفُوًا: وافر، کثیر، فراوان یا بہت ہونا کی افراط، کثرت یا بہتات ہونا، کناروں پر سے بہنا۔ أَضفَى ہ علي: کو وافر مقدار میں کوئی چیز دینا یا کیلئے مختص کرنا، کو کوئی چیز دینا، کو کوئی چیز انعام دینا۔ ـــ علي ہ: کوئی چیز رکھنے دینا، کو کسی چیز کا مالک ہونے دینا، کو سے پُر کرنا۔ ـــ علي ہ: کو میں لپیٹنا، کو سے ڈھانپنا، کو پر پھیلانا۔ ضَفوَةُ العيش: مطمئن اور آرام دہ زندگی۔ ضَافٍ: کثیر، وافر، فراوان، بہت، بافراط، لبریز، فراخ، کشادہ، مفصل، دور تک پھیلا ہوا، بہت، بڑا، پورا، جامع مکمل۔

ضق: ضَقَّ ـضَقًّا: آواز نکالنا۔

ضك: ضَكَّ ـضَكًّاہُ: کو دبانا۔ـ الامرُ فلاناً: معاملہ کا کسی پر تنگ ہونا۔ ـــ ہُ بالحُجَّة: کو دلیل سے مغلوب کرنا۔

ضكز: ضَكَزَ ـضَكزاً ہُ: کو سختی سے چھونا۔

ضكل: الضَكِل: تھوڑا پانی۔ الضَيكَل جمع ضَيَاكِل و ضَيَاكِلَة: بڑے تن و توش کا آدمی، ننگا، برہنہ، فقیر۔ الأُضكَل: ننگا۔

ضل: ۱۔ ضَلَّ ـضَلالًا و ضَلالَةً: کج راہ ہونا، دین سے پھرنا، حق یا راستہ سے ہٹنا، بھٹکنا صفت: ضَالّ جمع ضُلَّال و ضَالُّون۔ ـــ الطريقَ أو عنهُ: راستہ سے بھٹکنا۔ـ الشيءُ عنه: سے چیز کا ضائع ہونا اور جاتا رہنا۔ـــ سعيُهُ: کوشش میں ناکام ہونا۔ـــ الرجُلَ: کو بھول جانا۔ ضَلَّل تَضلِيلاً و تَضلالاً ہُ: کو گمراہ کرنا، کو گمراہ کہنا۔ أَضَلَّ الشيءَ: کو ضائع کرنا۔ ـــ ہُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو گمراہ کرنا۔ـــ فلانٌ فرسَهُ: کے گھوڑے کا بھاگ جانا اور اس سے پتہ نہ لگنا کہ کہاں گیا۔ـــ الشيءَ و الرجُلَ: کو گمراہ پانا۔ اسی سے ہے: أتى قومَهُ فاضلهم: یعنی وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں گمراہ پایا۔ تَضَالَّ: گمراہی کا دعوی کرنا۔ إِستَضَلَّ: گمراہ ہونے کو کہنا۔ الضَلّ و الضُلّ و الضَلال و الضلالَة: گمراہی، باطل۔ کہتے ہیں: هو ضُلّ بنُ ضُلّ او ضِلّ بنُ ضِلّ او ضُلُّ أَضلالٍ او ضِلُّ أَضلالٍ: وہ گمراہی میں منہمک ہے یا اس کے باپ کا پتہ نہیں کہ کون ہے یا اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ الضُلَل: گمراہی، پتھروں کے نیچے یا درختوں کے مابین بہنے والا پانی جس کو دھوپ نہ پہنچتی ہو۔ الضُلَّة: رہنمائی میں مہارت کہتے ہیں: دليلٌ به ضُلَّة: وہ رہنمائی میں ماہر ہے۔ الضله: ضل کا اسم مرہ، حیرت، نیکی یا برائی کی طلب میں سخت حیرت یا مدہوشی۔ الضِلَّة: گمراہی کہتے ہیں: ذهب دمه ضِلّةً: اس کا خون رائیگاں گیا۔ ذهب ضِلَّةً: معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ هو تِبعُ ضِلَّة: وہ فریبی ہے، اس میں خیر و بھلائی کی کوئی چیز نہیں۔ هو يلومني ضِلَّةً: وہ مجھے ملامت کرنے میں راہ راست پر نہیں۔ الضَالَّة جمع ضَوَالّ: الضال کا مونث، وہ کھوئی ہوئی چیز جس کی تلاش کی جائے۔ الضَلُول: گمراہ۔ الضِلِّيل: بہت زیادہ گمراہ۔ المَلِكُ الضِلِّيل: زمانہ جاہلیت کے شاعر امریٔ القیس کا لقب۔ الأُضلُولَة جمع أَضَالِيل: غلطی، گمراہی۔ المَضَلّ: جس میں لوگ گمراہ ہوں۔ المُضِلّ (فا): سراب۔ المَضَلَّة و المَضِلَّة: گمراہی۔ ارضٌ مَضَلَّة و مَضِلَّة: وہ زمین جس میں راستہ بھول جائیں جمع میں ارضونٌ مَضَلّاتٌ کہتے ہیں: المُضَلَّل: بہت گمراہ، گمراہی کا بہت پیچھا کرنے والا، جس کو نیکی کی توفیق نہ ہو۔

۲۔ ضَلَّ ـضَلالاً و ضَلالَةً الشيءُ: چیز کا تلف ہونا۔ـ الرجلُ: آدمی کا مرکر مٹی اور ہڈیاں ہو جانا۔ أَضَلَّ الشيءَ: کو ہلاک کرنا، دفن کرنا، غائب کرنا۔ الضَلّ و الضُلّ و الضلال و الضَلالَة: ہلاکت۔

◯ ضَلَّ ـضَلالاً و ضَلالَةً: راستہ بھول جانا۔ ـــ ہ/ عن: راستہ سے بھٹک جانا، بھٹکتے پھرنا۔ـ غلطی کرنا۔ ضل سعيه: کی کوشش کا بیکار، فضول یا لاحاصل ہونا۔ ضَلَّل ہ: کو غلط راہ پر لگانا، غلط خیال دلانا، سے غلطی کرانا، کو گمراہ کرنا، راہ سے بھٹکانا، کو بہکانا، سبز باغ دکھانا، دھوکا دینا، دغا دینا، فریب یا جُل دینا۔ ضَلَّل نفسه: اپنے آپ کو بہکانا، سبز باغ دکھانا۔ أَضَلّ بمعنی ضَلَّل نیز اضل ہ۵: کو راستہ سے بھٹکانا۔ـ ہ: کو ضائع ہونے دینا۔ ضُلّ: غلطی، خطا۔ ضَلال: راستہ سے بھٹکنا، حق سے بھٹکتے پھرنا، غلطی۔ ضَلالُ الألوان: رنگوں میں امتیاز سے عاری، رنگوں کا اندھا پن۔ ضَلالَه: غلطی گمراہی۔ اُضلُولَه جمع اضاليل: غلط عقیدہ، گمراہی، ضلالت، غلط طرز عمل۔ مَضَلَّه: گمراہ ہونے کا موقع یا امکان۔ تضليل: غلط راہ پر لگانا، ڈالنا یا گمراہ کرنا، مغالطہ وسوسہ، توہم، دھوکا، فریب، دغابازی۔ ضال: راستے سے بھٹکنے والا، مارے مارے پھرنے والا، گم کردہ راہ، گمراہ، بھٹکا ہوا، گم گشتہ کھویا ہوا، برباد شدہ، غلط، غیر صحیح، نادرست، جھوٹا۔ ضالة و ضالة منشودة: مستقل جستجو کا مقصود، طویل عرصہ سے عزیز خواہش کا مقصد۔ مُضَلِّل: گمراہ کن، فریب دہ، پرفریب مغالطہ آمیز۔ مُضِل: گمراہ کن، مغالطہ میں ڈالنے والا، دھوکے میں ڈالنے والا۔

ضلع: ۱۔ ضَلَعَ ـضَلعًا الرجُلَ: کی پسلی پر مارنا۔ ضَلُعَ ـضَلاعَةً: قوی اور مضبوط پسلیوں والا ہونا، صفت: ضَلِيع، ضَلِعَ ـضَلَعًا و ضَلَعًا الرجُلُ: شکم سیر یا سیراب ہونا۔ ضَلَّعَ الثوبَ: کپڑے پر پسلی کی شکل کی صورتیں بنانا۔ـــ ہُ: کو بوجھل کرنا۔ أَضلَعَ ہُ: پر بوجھ ڈالنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ أَضلَعَتهُ الخطوبُ: حوادث نے اس پر بوجھ ڈال دیا۔ تَضَلَّعَ: خوب شکم سیر یا سیراب ہونا۔ اسی سے ہے: تَضَلَّعَ من العلوم: علوم سے وافر حصہ پانا۔ إِضطَلَعَ: قوی اور مضبوط ہونا۔ـــ بحمله: بوجھ لے کر کھڑا ہونا اور اسکی قوت رکھنا۔ الضِلَع جمع أَضلُع و ضُلُوع و أَضلاع (ع ۱): پسلی (مونث ہے) مثلث یا تکون کا ایک ضلع۔ الضِلَع من البطيخ: خربوزے کی قاش۔ ضِلَع السِلق و نحوه: چقندر وغیرہ کے پتے کی موٹی رگ۔ الضِلَع جمع أَضلُع و ضُلُوع و اضلاع: پسلی، ابرو۔ ـــ من البطيخ: خربوزہ کی قاش۔ کہتے ہیں: هم عليَّ ضِلَعٌ جائرة: وہ دشمنی میں میرے خلاف متحد ہیں۔ الضَلَع: طاقت۔ الضِلَعَة فعل کی شکل، پہلو۔ الضِلَعَة (ح): ایک قسم کی سبز رنگ اور چھوٹی ہڈی کی مچھلی۔ الأَضلَع جمع ضُلع: مضبوط موٹا آدمی۔ الضَلِيع جمع ضُلع م ضَلِيعَة: مضبوط۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مضبوط پسلیوں والا۔ رجُلٌ ضَلِیعُ الفم: بڑے منہ والا آدمی۔ المُضْلع من الاحمالِ: بوجھل عاجز کرنے والا بوجھ۔ کہتے ہیں: ھو مُضْلِعٌ بھذا الامر: وہ یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ الـمُـضَـلَّعَ (مفع): پہلوؤں والا، متعدد الاضلاع۔ ۔ من الشیاب: دھاری دار کپڑا، پہلوؤں والا۔

۲۔ ضَـلَعَ ـضَـلْعًـا الشـیءُ: ٹیڑھا ہو جانا۔ صفت: ضَالِع۔ ــــ علیه: پر ظلم کرنا۔ ضَـلِعَ ـضَـلَعًا وضَلْعًا: پیدائشی ٹیڑھا ہونا۔ صفت: ضَلِع: اس سے ہے: لأقیمن ضَلَعَك او ضَلْعَك: میں تیرا ٹیڑھا پن سیدھا کر دوں گا۔ ــ مع فلان: کے ساتھ جھکنا۔ ضَلَّعَ هُ: کو جھکانا، ٹیڑھا کرنا۔ أضْلَعَ هُ کو جھکانا۔ اِلـضَـلْـعِ (مص): جھکاؤ، ٹیڑھا پن۔ کہتے ہیں: ضَلْعُكَ مع فلان تمہارا جھکاؤ اور پیار، محبت فلاں کے ساتھ ہے۔ الضَلَع (مص): پیدائشی ٹیڑھا پن۔ الـضَـلُـوع: زمین کا ڈھلوان۔ قـوسٌ ضَـلِـیع وَضَلِیعَةٌ و مَضَلُوعةٌ: کمان جس کی لکڑی میں جھکاؤ ہو۔

۳۔ الضَلَع: قوت اخلاق کی وسعت۔ الضِلَع: اکیلا پتلا پہاڑ۔ جال، پھندا۔

○ ضَلَعَ ـضَلَعًا مع: کی حمایت کرنا، کسی غرض کیلئے کسی کے ساتھ متحد ہونا۔ ضَـلُـع ـضَلاعة: مضبوط وقوی ہونا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا یا قوی ہیکل ہونا۔ ضَـلِـعَ ـضَـلَعـاً: ٹیڑھا ہونا، خمیدہ ہونا، مڑنا۔ ضَـلَّـع ہ: کو ٹیڑھا کرنا، موڑنا، جھکانا۔ تَضَلَّعَ من: سے لبالب، یا کھچا کھچ بھرا ہونا، پر ہجوم ہونا، میں ماہر ہونا۔ اضطلع ب: میں ماہر ہونا، کا ذمہ لینا، کو اپنے سر لینا۔ اِستضلع من: میں ماہر ہونا، سے خوب واقف ہونا۔ ضَـلْـع: تعلق، محبت شفقت لگن، چاہ، لگاؤ، وابستگی۔ ضَـلْعُهُ معه: اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کا طرف دار اور حمایتی ہے۔ ضِـلْـع و ضِـلَع جمع ضُـلُـوع و أضْـلاع و أضْـلُع: پسلی، چاپ، قتلہ، قاش، ٹکڑا، پہلو طرف ضلع (کسی مثلث یا تکون کا)۔ الأضَلاع: مینہ۔ ضـلـع البرمیل: پیپے کی پٹی، چپٹی۔ متسـاوی الاضـلاع: مساوی الاضلاع equilateral۔ کان لـه ضـلـع فی الامر اس کا اس معاملہ میں ہاتھ تھا، اس نے اس معاملہ میں ایک کردار ادا کیا۔ ضَـلِـیـع: مضبوط، قوی ہیکل، واقف حال، ماہر تجربہ کار۔ ضَلاعَة: طاقت، موٹا تازہ یا قوی ہیکل ہونا، جسم کا قوی ہونا۔ مُـضَـلَّـع: پسلی دار، کثیر الاضلاع جمع مُضَلَّعَات کثیر الاضلاع شے۔ صاج

مُـضَـلَّـع: سلوٹ یا نال دار لوہا corrugated iron۔ مُتَضَلِّع من: میں ماہر، سے واقف۔

ضمّ: ا۔ ضَمَّ ـضَمًّا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ ـ الشیءَ إلیه: کو اپنی طرف کھینچنا۔ ـ الشیء: پر قبضہ کرنا۔ آپ کہتے ہیں: ضمّ علی یدی: اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ضـم فـلانـا الیـه: کو اپنے ساتھ رکھنا۔ ــــ الـحـرفَ: حرف کو ضمہ کی حرکت دینا (حرف پر پیش لگانا)۔ ــــ هُ إلی صدره: سے معانقہ کرنا، کو گلے لگانا۔ کہتے ہیں: ضَمَّ جناحَه عن الناس: وہ لوگوں پر مہربان ہوا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا۔ ضَـامَّهُ الیـه: کو اپنے ساتھ ملانا۔ أضَـمَّهُ الشـیءَ إلی فلان: چیز کو کسی کے ساتھ فلاں کے پاس بھیجنا۔ تَضَمَّمَ الشیءَ: کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کرنا۔ تَـضَامَّ القومُ: لوگوں کا باہم جمع ہونا، متحد ہونا۔ اِضْطَمَّهُ: کو اپنی طرف کھینچنا۔ ـ علیه: کو شامل کرنا، پر مشتمل ہونا۔ اِنضَمّ: جڑنا، ملنا۔ ــ علی کذا: پر مشتمل ہونا۔ الـضَمُّ (مص) عند النحاۃ: نحویوں کے نزدیک: پیش (ـُ)۔ الضَمَّة: گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی جماعت۔ پیش (ـُ)۔ الـضِمَام: ملانے کا ذریعہ۔ الـضَمُوم: دو لمبی پہاڑیوں کے درمیان کی وادی۔ الـضَمِـیـم م ضَمِیمَة: ساتھی۔ الإضْـمَامَة جمع أضَـامِیـم: جماعت، گروہ۔ ــ من الکتب: تحریرات کا پلندہ۔ الـمُنْضَمّ علی کذا: پر مشتمل۔ کہتے ہیں: أصْبَحَ مُنْضَمًّا: وہ دبلا پتلا ہو گیا۔

۲۔ ضَـمْضَمَ ضَمْضَمَةً فلانٌ علی المال: سب مال لے لینا۔

۳۔ ضَـمْـضَـمَ ضَـمْـضعمَةً الرجُلُ: کا دل کو قوی اور بہادر بنانا۔ ــ الأسَدُ: شیر کا دھاڑنا۔ الـصمصم والضُماضِم (ح): شیر، جرأت والا، جسیم، غصہ والا

○ ضَمَّ ـضَمّا ہ: کو قریب لانا، ملانا، جوڑنا، کھینچ کر قریب کرنا، سمیٹنا، سکیڑنا؛ کو جمع کرنا، کا میزان لگانا؛ اکٹھا کرنا، فصل کاٹنا۔ ـ هُم: لوگوں کو متحد کرنا۔ ـ ہ: سے گلے ملنا، معانقہ کرنا۔ ــــ ہ الی: کو سے ملانا، جوڑنا، کو کے آخر میں لگا دینا، جوڑ دینا، کو میں شامل کرنا۔ ــ ہ/ ہ اِلی: کو میں جمع کرنا، کو سے جوڑنا، کو سے متحد کرنا۔ ــ ہ: (ہونٹ) بند کرنا، بھینچنا۔ ــ علی: کسی شخص یا چیز کو زور سے پکڑنا، ہاتھوں سے پکڑنا، ہتھیانا، پکڑنا۔ ضَـمَّ ہ: (قسمت کا) کسی کو ناگوار صورت حال میں پھنسا دینا۔ ضَمَّ الصفوف: صفیں متحد کرنا۔ ضَـمَّـهُ اِلی صدره: کو گلے ملنا، گلے لگانا، آغوش میں لینا، ہم آغوش ہونا۔

ہونا، جمع ہونا۔ اِنْضَـمَّ: قریب آنا، مل جانا، ہجوم ہونا، بندھا ہونا۔ ــ اِلی: سے متحد ہونا، میں جمع ہونا، شامل ہونا، سے شرکت کرنا، کیساتھ شریک ہونا، کا ہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سے ملحق ہونا، کا سے الحاق ہونا۔ اِلی: (کسی تنظیم وغیرہ) میں شامل ہو جانا۔ ــ علی: پر مشتمل ہونا۔ ضمیمة: اضافہ، ضمیمہ، تکملہ، (تنخواہ میں) اضافہ۔ تضامًّا مع: مع، سمیت، اور، بھی، (together with)، مَضْمُوم: بند، بھنچا ہوا، سکڑا ہوا۔ مُنْضَمَّة: لازمی (جمع لوازم) متعلقہ چیز (جمع متعلقات)۔

ضمج: ضَمَجَ ـضَمْجًا جسدَهُ: جسم پر خوشبو لگانا۔ ـ بالارض: زمین سے پیوست ہونا۔ ضَمَّجَ جَسَدَهُ: جسم پر خوشبو لگانا۔ أضْـمَجَ بـالارض: زمین سے پیوست ہونا۔ الـضَمَـج: آفت۔ الـضَمْجَة جمع ضُمُج (ح): کھٹل۔

ضمح: اِضْمَحَلَّ: گھٹنا، نیست ہونا۔ ــ السحابُ: بادل کا اڑ جانا، کھل جانا۔

○ اِضْمَحَلَّ: نظروں سے اوجھل ہو جانا، غائب ہو جانا، کافور ہو جانا، دفعۃً غائب ہو جانا، ہوا میں تحلیل ہو جانا، معدوم ہونا، سمٹنا، آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو جانا، کم ہو جانا، گھٹ جانا۔

ضمخ: ضَمَخَ ـضَمْخًا و ضَمَّخَ جسدَه بالطیب: بدن پر خوشبو لگانا، تھوپنا۔ تَـضَـمَّخَ و اضْطَمَخَ وَانْـضَـمَخَ بـالطیب: خوشبو سے لتھڑنا، لت پت ہونا۔ الضِمْخَة: عورت۔ (ح): موٹی اونٹنی۔

○ ضَمَخَ ـضَمْخًا و ضَمَّخَ ہ/ ہ ب: کو کا تیل لگانا، کو کا تیل ملنا، کو کی خوشبو لگانا۔

ضمد: ا۔ ضَمَدَ ـضَـمْداً رضَمَّدَ الجرحَ: زخم پر پٹی باندھنا۔ کہتے ہیں: اضْـمُدُ عـلیـك ثیابَك: یعنی اپنے آپ پر کپڑے باندھ لے۔ ضَـمَـدَهُ بالعصا: اس نے اس کے سر پر لاٹھی ماری۔ اسی طرح: ضـمـد رأسَـه بـالسیف: کے سر پر تلوار ماری۔ أضْـمَدَ القومَ: لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ تَضَمَّدَ الجرحُ: زخم پر پٹی کا بندھ جانا۔ الضِمْد: ساتھی، دوست۔ الضِمَاد و الـضِـمَـادَة: پٹی جس کو زخم پر باندھا جاتا ہے۔ سر کا فیتہ یا پٹی۔ کہتے ہیں: انا عـلی ضِمَادةٍ من الامر: میں معاملہ کے قریب پہنچ گیا ہوں۔

۲۔ ضَمِدَ ـضَـمَدًا: خشک ہونا۔ الـضَـمْد: خشک، تر (ضد)۔

۳۔ ضَمِدَ ـضَمَداً: سخت غضبناک ہونا۔ ـ علیه: سے کینہ رکھنا، نفرت کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۴ـالـضـمـد اچھی بکریاں، خراب بکریاں (ضد) کینہ وری۔ الـضـمـد ظلم، بقیہ حق۔ کہتے ہیں لـنـا علی فلان ضَمَدٌ فلاں کے اوپر قرض وغیرہ کا ہمارا حق باقی ہے۔ الضامد لازمی، ضروری۔
ضـمـاد زخم پر پٹی باندھنا، پٹی، فیتہ، عورت کا کئی معاشقے جاری رکھنا۔ ضـمـادہ زخم پر پٹی باندھنا، پٹی۔ مُضَمِّد مرد نرس۔ مُضَمِّدۃ نرس، گدی، پٹی، ٹھنڈے پانی کی پٹی۔

ضمر ا۔ضمر و ضمر ضُمُوراً لاغر، نحیف اور کم گوشت والا ہونا۔ صفت ضامِر۔ مونث ضامر و ضامِرۃ جمع ضُمَّر و ضَوَامِر۔ ضَمَّر و أضمر الفرس گھوڑے کو دبلا کرنا۔ ضَمَّر وجهَهُ لاغری سے چہرہ کا سکڑنا۔ اِنضمر الغصنُ شاخ کا خشک ہونا۔ اِضطمر مل جانا۔ الفرسُ گھوڑے کا دبلا ہو جانا۔ الضُمر ۃ ضمرۃ لاغر دبلے پیٹ والا، نازک بدن، تنگ۔ الضُمر و الضُمر لاغری، دبلا پن۔ الضمیر جمع ضمائر مرجھایا ہوا انگور۔ المِضمار گھوڑے چھریرے کرنے کی جگہ یا مدت، گھڑ دوڑ میں وہ جگہ جہاں تک دوڑا جاتا ہے۔ گھوڑ دوڑ اور سدھانے کا میدان۔
۲ـاضمر الامر بات کو چھپانا ـــ فی نفسه شیئاً اپنے دل میں کسی چیز کا عزم کرنا۔ المخبرَ خبر کی تہہ تک پہنچنا ـــ ت الارض فلاناً زمین کا کسی کو سفر یا موت کی وجہ سے غائب کر دینا۔ الشاعرُ شاعر کا اضمار برتنا۔ المضمر ضمیر۔ والمُضمَر پوشیدہ۔ الضِمار پوشیدہ، ٹالا ہوا وعدہ (جیسے عطاء لم یکن عدۃً ضِماراً عطیہ ٹالا ہوا وعدہ نہ تھا)، تنگی، مال جس کی واپسی کی امید نہ ہو۔ من الدین قرض جس کی مدت مقرر نہ ہو الضمیر جمع ضَمائِر انسان کا باطن ـــ عندالنحاۃ نحویوں کے نزدیک وہ کلمہ جو متکلم، مخاطب اور غائب پر دلالت کرے۔ جیسے انا، انت هو۔ الاِضمار (مص) عند العروضیین علم عروض میں دوسرے حرف کے اسکان کو کہتے ہیں۔ جیسے مُتَفَاعِلُنْ کی "ت" جو مُستَفعِلن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
ضمر و ضَمُر ضُمراً و ضموراً کمزور، پتلا، دبلا، لاغر یا سکڑا ہوا ہونا۔ ضَمَّر ہ کو کمزور بنانا، پتلا کرنا، پتلا اور لمبا کرنا۔ أضمر ہ بمعنی ضَمَّرہ۔ نیز اضمر فی نفسه ہ کو اپنے دل میں چھپا رکھنا، چھپانا، مخفی رکھنا، خفیہ رکھنا، صیغۂ راز میں رکھنا۔ شیئا نفسه کو اپنے تک رکھنا ـــ ہ ل کسی جذبہ یا احساس وغیرہ کو کسی کی طرف اپنے دل میں یا ذہن میں رکھنا۔ أضمَر له الشر کے خلاف کینہ، بغض رکھنا، کے خلاف دل یا ذہن میں نفرت رکھنا۔ تَضَمَّر پتلا، دبلا، لاغر، کمزور ہو جانا۔ اِنضمر بالکل سوکھ جانا، مرجھا جانا، پژمردہ ہونا، جھرمر ہو جانا۔ دین ضِمار قرضہ جس کی واپسی ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ ضمیر دل، ذہن، نفس، شعور، ضمیر، ضمیر (گرامر)۔ تأنیب الضمیر پشیمانی، ندامت، توبہ، پچھتاوا۔ حَيُّ الضمیر فرض شناس، ایماندار، بااصول، بڑا محتاط، متدین، بہت بچنے والا۔ مُرتاحُ الضمیر امن پسند ذہن والا۔ فاقِد الضمیر بے ایمان، بددیانت۔ مضمار جمع مضامیر گھوڑ دوڑ کا میدان (race course)، گھوڑوں کے دوڑنے کا راستہ، اکھاڑہ، دنگل، میدان عمل، میدان۔ مُضمَر خفیہ، چھپا ہوا، مخفی، پوشیدہ، ضمیر (گرامر)۔ اسمٌ مُضمَر ضمیر (گرامر)۔

ضمز ضمز ضَمزاً چپ رہنا، منہ بند رکھنا۔ ـــ اللُقمۃ بڑا لقمہ بنا کر نگلنا ـــ علی ماله اپنے مال پر بخل کرنا، صفت ضامِز و ضَموز۔ الضَمُر و الضَمُور جمع ضُمُور تنہا پہاڑ، پست ٹیلہ۔

ضمس ضَمَس ضَمساً ہ کو آہستہ آہستہ چبانا، کو چوری چھپے چبانا۔

ضمن ا۔ضمِن ضمناً و ضماناً الشی و بہ کا ضامن ہونا۔ ضَمَّنَہُ الشیءَ کو کا ذمہ دار بنانا۔ تَضَمَّنَ الشیءَ عَنِّی اس نے میری طرف سے چیز کا ذمہ لیا۔ تَضَامَن الغرماءُ قرضداروں کا قرض خواہ کے سامنے باہم ذمہ داری لینا کہ وہ ان میں سے جس سے چاہے اپنی پوری رقم وصول کرنے کا حقدار ہے۔ کا مشترک ذمہ دار ہونا اور کیلئے قانوناً جوابدہ ہونا ـــ القومُ علی امر لوگوں کا کسی بات پر متحد و متفق ہونا۔ الضامِن کفیل، ذمہ دار۔ الضَمَان (مص) تاوان، ڈنڈ، کفالت ـــ الاجتماعی مشترکہ ضمانت، کفالت۔ شرکاتُ الضَمَان بیمہ کمپنیاں۔ الضمانة الدولیة بین الاقوامی ضمانت۔ الضمین جمع ضُمَنی ضامن، کفیل۔
۲ـضمِن ضمناً و ضماناً کو جمع کرنا۔ ضَمَّنَ التی الوعاءَ چیز کو برتن میں رکھنا ـــ الشاعرِ شاعر کا تضمین کرنا یعنی دوسرے کے شعر اپنے کلام میں شامل کرنا۔ تضمَّن الشیءَ پر مشتمل ہونا۔ الضِمن چیز کا اندر۔ ضِمنُ الکتاب کتاب کا لپیٹ۔ التضمین (مص) شاعر کا دوسرے شاعر کے شعر کا کچھ حصہ اس کے لفظوں اور معنی میں لے کر اپنے کلام میں شامل کرنا۔ المَضمُون (مفع) من الجملة جمع مضامین جملہ کا مضمون یا مافیہ۔ المُضَمَّن (مفع) من الاصوات غیر مکمل آواز۔
۳ـضَمِنَ ضَمَناً و ضَمَانَةً الرجلُ پرانی بیماری والا ہونا۔ صفت ضَمِن۔ الضَمَن و الضُمنَة و الضمان و الضَمانة پرانا مرض، زمانہ۔ الضَمِن پرانی بیماری میں مبتلا۔ (کہتے ہیں هو ضَمِنٌ علی اهلِه یعنی وہ اپنے گھر والوں پر بوجھ ہے)، عاشق۔ الضمین جمع ضَمنَی مرض کہن میں مبتلا۔
ضَمِنَ ضمانا ہ ب کیلئے ذمہ دار یا جوابدہ ہونا، کیلئے ضمانت ہونا، کیلئے ضمانت دینا، کا ذمہ دار ہونا ـــ ل ہ کو کی ضمانت دینا ـــ ہ من کے خلاف کا بیمہ کرنا۔ ضمن لنفسه شیئا کسی چیز کے متعلق واقعی پر یقین ہونا۔ ضَمَّنَ ہ من کا بیمہ کرانا ـــ ہ ہ کسی چیز کو کسی چیز میں ڈالنا، داخل کرنا، شامل کرنا، ملفوف کرنا، لف کرنا۔ تضمَّن ہ پر مشتمل ہونا، محیط ہونا، کا نتیجہ ہونا، کا مفہوم ہونا، کو شامل ہونا۔ تضامن ہ کا مشترکہ طور پر ذمہ دار یا جوابدہ ہونا، کی مشترکہ ذمہ داری لینا۔ ضِمن اندر۔ ضِمنَ میں، کے اندر، کے اندر اندر، کے درمیان میں۔ ضِمناً پوری طرح سے، خاموشی سے۔ مفهوم، ضمناً مُضمَر۔ من ضِمن پر مشتمل، کا، کے تحت۔ من ضمنهم کے درمیان۔ مباشرۃً و ضِمناً بلاواسطہ اور بالواسطہ۔ ضمنی شامل، مخفی، مضمر، بن کہے، خاموش۔ ضَمَان ذمہ داری، ضمانت، کفالت، اجازت نامہ، یقین دہانی، زندگی کا بیمہ، حفاظت، بیمہ۔ الضمان الجماعی مشترکہ دفاع یا ضمانت (collective security)۔ الضمان المُشتَرك مشترکہ ضمانت/دفاع۔ محدود الضمان محدود ذمہ داری کا، لمیٹڈ۔ شرکة الضمان بیمہ کمپنی۔ ضَمین جمع ضُمَناء ب کا ذمہ دار، کیلئے جواب دہ، ضامن، گارنٹی دینے والا؛ ضمانت، دینے والا، زمین کے ساتھ بک جانے والا غلام، کاشتکار۔ ضَمانة ضمانت۔ اَضمَن بہتر ضمانت دینے والا۔ تَضامُن باہمی ذمہ داری، جوابدہی، اتحاد۔ شرکة التضامن باہمی ذمہ داری کی تجارتی کمپنی۔ ضامِن ذمہ دار، جوابدہ، ضامن، کفیل، مضمون گارنٹی شدہ، بیمہ شدہ، ضمانت دیا گیا، بیمہ شدہ چیز جمع مضامین کسی مراسلہ وغیرہ کا مضمون، مافیہ، مفهوم، منشا، معنی۔ مضمون الوصول رجسٹری شدہ (خط وغیرہ)۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

متضامن: باہمی، مشترکہ، مشترک باہم دگر، اتحاد میں شامل۔

ضنّ: ضَنَّ ـ ضَنًّا و ضِنًّا و ضِنَّةً و ضَنَانَةً و ضَنَّةً و اضْطَنَّ بالشي: میں بخل کرنا ــ بالمکان. جگہ نہ چھوڑنا۔ الضِن و الضِنّة (مص). وہ چیز جس میں بخل کیا جائے، خاص۔ کہتے ہیں: ھو ضِنّی و ضِنّتی: وہ میری خاص چیز ہے۔ الضَنَن بہادر۔ الضَنِین بخیل، کنجوس۔ کہتے ہیں: انما یُضَنّ بالضنین اس مثل کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص تمہاری دوستی پر جما رہے اس کی دوستی کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ الضَنائِن وہ چیزیں جس کی نفاست کی وجہ سے ان میں بخل کیا جائے۔ ضَنائِنُ اللّه خداتعالیٰ کی مخلوق میں خاص لوگ۔ الضَنَانَة (مص) کہتے ہیں: ھجمتُ علی القوم و ھم بضناتھم میں نے لوگوں پر حملہ کیا، وہ متفرق نہیں ہوئے۔ بلکہ اکٹھے رہے۔ المَضَنّة و المِضَنّة جمع مَضَانّ وہ چیز جس پر بخل کیا جائے۔

○ ضَنّ ـ ضَنًّا ب. کو چھپانا۔ ــ علی ب. سے کسی چیز میں کنجوسی کرنا، سے کسی چیز کو روکنا۔ ــ علی ب. کسی شخص سے دریغ کرنا۔ ما ضنّ بمشقة علی کی خاطر کسی کوشش سے نہ کترانا۔ ضنًّا ب میں کفایت شعاری کرنے کیلئے، مناسب غور کے پیش نظر۔ ضنین کنجوس، لالچی، حریص، طامع، کفایت شعار، کم خرچ، بہت کم، ناکافی۔

ضنا ا۔ ضَنَأَ ـ ضَنْأً و ضُنُوءًا چھپنا۔ ــ فی الأرض زمین میں جانا۔ اِضْطَنَأَ لهُ و منهُ سے شرمانا۔

۲۔ ضَنَأَ ـ ضَنْأً و ضُنُوءً المالُ مال زیادہ ہونا۔ ــ و ضَنِئَ ـ ضَنْأً و اَضْنَأَت المرأةُ: عورت کا بہت اولاد والی ہونا۔ صفت: ضَانِئٌ و ضَانِئَةٌ جمع ضَوَانِئ۔ الضَنْءُ جمع ضُنُوء کثرت نسل۔ ــ و الضِنْءُ اولاد (اس کا واحد نہیں آتا)۔

۳۔ الضَنْءُ جمع ضُنُوء اصل، کان (معدن)۔ الضُنَاةُ و الضَنَاءَة ضرورت۔

○ ضِنْو: بچے۔

ضنب: ضَنَبَ ـ ضَنْبًا به الارضَ کو زمین پر پٹک دینا۔ ــ بالشيء پر قبضہ کرنا، کو گرفت میں لینا۔

ضنط: ضَنِطَ ـ ضَنَطًا الشحمُ. چربی کا موٹا اور ٹھوس ہونا۔ انْضَنَطَ القومُ: لوگوں کا بھیڑ کرنا۔ الضُنْط تنگی۔ الضَنَط (مص) چربی نشاط، شیخی۔ اِنضِاط کنویں وغیرہ پر بہت بھیڑ۔

ضنك ا۔ ضَنُكَ ـ ضَنَاكَةً: کمزور رائے، جسم یا عقل والا ہونا، صفت: ضَنِيك جمع ضُنُك ــ ضَنَاكَةً و ضَنْكًا و ضُنُوكًا تنگ ہونا۔ الضَنك (مص): ہر تنگ شے (مذکر و مونث)۔ کہتے ہیں: مکانٌ ضَنْكٌ: تنگ جگہ۔ عیشةٌ ضَنْكٌ: تنگ زندگی، مشکلات میں مبتلا حالات۔ الضَنَاكَة (مص) تنگ زندگی۔ الضَنِيك: تنگ زندگی، تنگ گزران، محض خوراک پر خدمت کرنے والا۔

۲۔ ضُنِكَ ضَنْكًا زکام والا ہونا۔ أَضْنَكَهُ اللّهُ اللہ کا کسی کو زکام میں مبتلا کرنا۔ الضُنَاك و الضُنْكَة زکام۔

۳۔ الضِنَاك مضبوط جسم والا (مذکر و مونث)۔ (رجلٌ ضِنَاكٌ: مضبوط جسم والا مرد۔ امرأةٌ ضناك: مضبوط جسم والی عورت) بڑا درخت۔ الضَنِيك کٹی ہوئی چیز۔

○ ضَنُكَ ـ ضَنْكًا و ضناكةً: حالات کا مشکلات میں گھرا ہونا، مقید یا محدود ہونا، تنگ ہونا؛ کمزور ہونا، تھکا ہوا ہونا۔ ضَنْك غربت، افلاس، تہی مائگی، فلاکت، مفلوک حالی، حسرت، مفلسی، مشکلات۔ عیش ضنك: سخت خراب یا گھٹیا زندگی۔ مَضَانِك مشکلات، سختیاں۔ مُضْنِك کمزور، تھکا ہوا۔

ضنا ا۔ ضَنِيَ ـ ضَنًى (واوی): بیماری سے کمزور و نحیف ہونا۔ صفت: ضَنًى و ضَنٍ: کہتے ہیں: تركتهُ ضَنًى و ضَنِيًا: میں نے اسے بیماری کی وجہ سے کمزور و لاغر چھوڑا۔ ضَنًى میں مذکر، مونث اور جمع برابر ہیں۔ جیسے: ھو ضَنًى، ھی ضَنًى، ھم ضَنًى و ھنّ ضَنًى نون کو کسرہ دینے کی صورت میں تثنیہ جمع و تانیث ضروری ہوگی۔ جیسے: ھو ضنٍ، ھی ضَنِيَةٌ، ھما ضَنِيَان یا ضنیتان، ھم أَضْنَاء، ھن ضَنِيَات ضانی مُضَانَاةً الشيءَ او الامرَ چیز یا معاملہ وغیرہ کی تکلیف برداشت کرنا۔ أَضْنَى إِضْنَاءً المرضُ فلانًا بیماری کا کسی کو ست و ناکارہ بنانا۔ ــ الرجُلُ بیماری سے لاحق ہونے والی کمزوری کی وجہ سے صاحب فراش ہونا۔ تَضَنَّى جھوٹ موٹ بیمار بننا۔ اِنْضَنى بیماری کی وجہ سے صاحب راش ہونا۔ الضَنى بیماری، لاغری، بدحالی۔ الضِنى خوفناک دردیں۔

۳۔ الضِنْو و الضَنْو و الضَنَى بچے۔ کہتے ہیں: له ضنو کثیر: اس کے بہت سے بچے ہیں۔

ضنی: ضَنَى ـ ضَنًى و ضَنَاءً ت المرأةُ. عورت کا کثیر الاولاد ہونا۔ ــ نصیبُ فلانٍ فلاں کے حصہ کا زیادہ ہونا۔ ضَنِيَ ـ ضَنًى و ضَنَاءً تِ المرأةُ: عورت [illegible]

ضهب ا۔ ضَهَبَ ـ ضَهْبًا هُ بالنار. کو آگ سے متغیر کرنا۔ ضَهَّبَ اللحمَ. گوشت کو نیم بریان کرنا ــ القوسَ. کمان کو نرم کرنے کے لئے آگ پر تپانا۔ صفت: ضَهْبَاء الضَيْهَبُ پہاڑ کا وہ گرم حصہ جس پر سخت گرمی پڑتی ہو اور گوشت بھونا جا سکے۔ لحمٌ مُضَهَّبٌ. نیم بریاں گوشت (قیمہ)۔

۲۔ ضَهَبَ ـ ضُهُوبًا کمزور ہونا۔

۳۔ ضَهَّبَ القومُ. لوگوں کا زیادہ ہونا، تیز چلنا۔ ضَهْبُ القومِ: مخلوط لوگ۔

۴۔ ضَاهَبَ مُضَاهَبَةً ہُ سے برابر برتاؤ کرنا، کو گالی گلوچ کرنا، کی سخت توہین کرنا۔

ضهت: ضَهَتَ ـ ضَهْتًا هُ کو خوب روندنا۔

ضهد: ضَهَدَ ـ ضَهْدًا هُ پر غلبہ کرنا۔ اَضْهَدَ هُ و أَضْهَدَ به و أَضْطَهَدَهُ پر دباؤ ڈالنا، ظلم کرنا، کو ستانا اور مجبور کرنا۔ الضُهْدَة: غلبہ، قہر۔ کہتے ہیں: ھو ضُهْدَةٌ لکل أحد: جو چاہے اسے دبا لے اور ظلم کا نشانہ بنائے۔ الضَهْيَد بہت سخت۔

○ ضَهَدَ ـ ضَهْدًا ہ. کو دبانا، کچلنا، پر ظلم کرنا، سے ظالمانہ برتاؤ کرنا، کو اذیتیں دیتے رہنا۔ اِضطهد ہ بمعنی ضَهدَہ۔ اِضطهاد جمع اضطهادات خاتمہ، ظلم، استبداد، برابرتاؤ، سختی، بدسلوکی، ایذا رسانی، غلامی۔ مُضْطَهِد ظالم، بے انصاف، جابر فرمانروا، ظالم آمر ایذاء دینے والا، ایذا دہندہ۔

ضهر: الضَاهِر پہاڑ کی چوٹی، وادی۔ الضَهْرَ پہاڑ کی چوٹی، وادی، کچھوا۔

ضهز: ضَهَزَ ـ ضَهْزًا و ضُهُسًا هُ کو خوب روندنا۔ ــ ت الدابّةُ جانور کا آگے کے دانتوں سے کاٹنا۔

ضهل ا۔ ضَهَلَ ـ ضَهْلًا و ضُهُولًا اللبنُ: دودھ کا تھوڑا تھوڑا کر کے جمع ہونا۔ ــ ت الناقةُ و نحوها اونٹنی وغیرہ کا دودھ کم ہونا۔ صفت: ضَهُول جمع ضُهُل۔ ــ هُ حقّهُ: کا حق کم کرنا۔ أَضْهَلَ النخلُ: درخت خرما پر کھجوروں کا پکنے لگنا۔ اِسْتَضْهَلَ الخبرَ: حسب امکان خبر حاصل کرنا۔ الضَهل: جمع شدہ دودھ، تھوڑا پانی۔ الضَاهِلَة من العیون: کم پانی کا چشمہ۔

۲۔ ضَهَلَ ـ ضَهْلًا و ضُهُولًا و تَضَهَّلَ إلی فلان. بغیر لڑنے کی نیت کے کسی کی طرف لوٹنا۔ أَضْهَلَ إلی فلان مالًا: مال کو کسی کی طرف کر دینا۔

ضهو: الضهواء: بے پستان اور بے دودھ عورت۔ الضَهْوَة جمع أَضْهاء: تالاب، جوہڑ۔

ضهی: ا۔ ضَهِيَ تَضْهَى ضَهًى ت المرأةُ: عورت کا بے پستان اور بے دودھ والی ہونا۔ صفت: ضَهْيَاء

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جمع ضُحَى۔ ـــ الارضُ: زمین کا بنجر ہونا، بے پانی بیابان ہونا۔

۲۔ ضَاهَى مُضاهاةً الرجُلَ: کے مشابہ ہونا، کا ہم شکل ہونا۔ الـضَهِيّ: مشابہ۔ کہتے ہیں: هو ضَهِيُّكَ: یعنی وہ تمہارے مشابہ ہے۔

ⓒ ضَـاهَى ہ/ ھ: جیسا، مانند، کا جوڑ، کے برابر، سے ملتا جلتا یا مشابہ ہونا یا مشابہت رکھنا۔ ـــ ہ، ب، علی: کا سے مقابلہ کرنا، سے پہلو بہ پہلو رکھ کر مقابلہ کرنا۔ ـــ بيـن / بيـن: دو چیزوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ ـ ب: کا نمونہ اتارنا، کا سا بنانا، کا چربہ اتارنا، کا سا ہونا، جیسا ہونا، کی نقل اتارنا، کے نقش قدم پر چلنا۔ ضَهْيَـى: سن یاس، حیض کی دائمی پابندی۔ ضِهِـي: جیسا، مانند، سے ملتا جلتا، مشابہ، مماثل۔ مُضـاهـاة: مشابہت، مماثلت، یکسانی، مطابقت، (کے ساتھ) مقابلہ، موازنہ (علی)۔ مُضَـاهٍ: مانند، مماثل، مشابہ، ملتا جلتا، مطابق۔

ضاء: ا۔ ضَاءَ ـضَوءًا و ضُوءًا و ضِياءً القمرُ وغیرہ: چاند وغیرہ کا چمکنا روشن ہونا۔ ضَوَّأَ تضوئةً البيتَ: گھر کو روشن کرنا۔ أضاء إضاءةً البيتُ: گھر کا روشن ہونا۔ البيتَ: گھر کو روشن کرنا۔ تَـضَوَّأَ: آگ کی روشنی میں موجود لوگوں کو دیکھنے کے لئے اندھیرے میں کھڑا ہونا ـــ ہُ: ایسی جگہ جانا جہاں وہ کسی کو اس کی آگ کی روشنی میں دیکھ سکے۔ اِستضاءَ به: سے روشن ہونا ـــ من فلان: سے مشورہ کرنا۔ الـضَوْءُ و الـضُوء جمع أضواء و الـضِياء و الـضواء: روشنی۔ الـمَضويُ و المُضِيء: روشن، روشن کرنے والا۔

۲۔ ضَوَّأَ تَضوئةً عن الامر: سے پھرنا۔

ⓒ ضَـاءَ ـضَوءًا: جھلکنا، چمکنا، چمک اٹھنا، شگفتہ ہونا، شعاعیں نکلنا، یا ڈالنا، روشن ہونا۔ ضَـوَّأَ ہ: کو جلانا، روشن کرنا، چمکانا، میں چراغاں کرنا، کو جگمگا دینا۔ أضـاءَ بمعنی ضاءَ۔ أضاء علی: پر روشنی ڈالنا ـ ہ: کو روشن کرنا، جگمگانا، میں چراغاں کرنا ـ ہ: (ذہن کو) روشن خیالی عطا کرنا۔ تَـضَـوَّأَ بمعنی: ضاء۔ اِستَضاءَ: جگمگانا، روشن ہونا، روشنی طلب کرنا ـــ ب: سے، کے ذریعے میں، کے ساتھ روشن خیالی یا بصیرت حاصل کرنے کا خواہاں ہونا، سے روشن خیالی یا رہنمائی حاصل کرنا۔ ضَوء، جمع أضواء: روشنی، چمک دمک، آب و تاب، تمتماہٹ۔ ضَوْءُ الشمس: سورج کی روشنی، دھوپ۔ ضوءُ القمر: چاندنی۔ ضوءٌ كـاشـفٌ: سرچ لائٹ search light۔ ضـوء النـهار: دن کی روشنی۔ على ضوءِ: کی روشنی میں، کے حالات کے تحت، جیسا کہ، سے دکھائی پڑتا ہے، کے مطابق، بقدر، حسب، بموجب، بلحاظ، بقول، بحکم۔ ضَـوئـي: روشنی کا۔ سـنة ضَوئِيةٌ: روشنی کا سال۔ ضِيـاء: روشنی، چمک دمک، آب و تاب، تمتماہٹ۔ إضاءة: روشن کرنا۔ مِصباحُ الاضاءَةِ: تاباں لیمپ۔ مُـضِـيء: چمکتا، روشن، تاباں تابندہ، روشنی دینے والا، رخشندہ، درخشاں، تابناک۔

ضاج: ا۔ ضَاجَ ـضوجًا عن كذا: سے نفرت کرنا۔ ـ الـوادی: وادی (دریا) کا کشادہ، وسیع یا فراخ ہونا۔ تَـضَـوَّجَ الـوادی: دریا کا بل کھاتے ہوئے جانا۔ إنـضـاج الـوادی: وادی (دریا) کا کشادہ، وسیع یا فراخ ہونا۔ إنـضـوج فی ضَوْجِ الوادی: دریا کے موڑ میں داخل ہونا۔ الـضَـوْج جمع أضواج: دریا کا موڑ۔

۲۔ الضوجان م ضَوجَانة: سخت بنجر۔

ضوح: ضَوَّحَ اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا۔

ضـار: ضَارَ ـضَوْرًا: بہت بھوکا ہونا ـــ ہُ الامرُ: کسی بات کا کسی کو نقصان دینا، ایذا دینا۔ تَـضَوَّرَ: بھوک یا چوٹ کی تکلیف سے لوٹ پوٹ ہونا، تڑپنا۔ ـ الذئبُ ونـحـوُہُ: بھوک سے بھیڑیے وغیرہ کا چیخنا، کراہنا۔ الضُور: سخت بھوک۔

۲۔ الضُور: سیاہ بادل، ابر سیاہ۔ الضُورَة: حقیر، ذلیل۔

ⓒ ضار ـضورا (ہ/ ھ): کو نقصان پہنچانا، زخمی کرنا، کسی کی طرف سے کسی کا دل پھرنا: شدید قسم کی بھوک لگنا، بھوکوں مرنا۔ تَـضَـوَّرَ: تکلیف سے لوٹ پوٹ ہونا، تڑپنا ـــ ہ: تکلیف یا بھوک سے تڑپنا، جھرجھری لینا، لوٹ پوٹ ہونا۔ ضَوْر: سخت بھوک۔

ضاز: ضَازَ ـضوزًا التمرةَ: پھل چبانا ـــ ہُ حقَّهُ: کو اس کا حق کم دینا۔

ضـوض: ضَوْضَى ضَوْضاةً و ضِيضَاءً: شور کرنا، غل مچانا۔ صفت: مُضَوْضِي۔ الضَوْضَى و الضوضاء و الضيضاء: شور، غل، شور و غوغا، ہنگامہ، گڑبڑ، جنگ یا بھیڑ میں لوگوں کی چیخ پکار۔

ضـوط: ضَـوَّطَ الاشياءَ: چیزیں جمع کرنا۔ تَـضَوَّطَ الشيءُ: کا ڈھیر لگنا۔ الـضَـوَط: جبڑے کا ٹیڑھا پن۔ الأضوط: ٹیڑھے جبڑے والا، احمق۔ الضُوَيْطَة: تالاب کی تہ میں موجود پتلی کیچڑ، کیچڑ، مثلاً گندھا ہوا آٹا، بے وقوف۔

ضـاع: ا۔ ضَـاعَ ـضوعًا ہُ: کو ہلانا، متحرک کرنا، میں ہلچل ڈالنا، کو مضطرب کرنا، ڈرانا ـــ المِسكُ: مشک کی خوشبو پھیلنا۔ الصبيُّ: روتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونا۔ تَـضَـوَّعَ المسكُ و الصبيُّ: خوشبو کا پھیلنا، بچے کا لوٹ پوٹ ہونا۔ و انضاعَ الفرخُ: چوزے کا اپنی ماں کی طرف پر پھیلانا تا کہ اسے چوغہ دے۔ رجـل مَضـوع: ڈرا ہوا آدمی۔

۲۔ ضَاعَ ـضَوعًا الدابةَ: جانور کو کمزور کرنا۔

۳۔ الـضَوْعُ و الضِوَع جمع أضْواع و ضِيعَان (ح): بلبل، الو۔ الضُوَاع: بلبل کی آواز۔

ⓒ ضَاعَ ـضَوعًا: خوشبو کا پھیلنا، منتشر ہونا، نکلنا، (کسی چیز کا) خوشبودار ہونا، معطر ہونا، خوشبو چھوڑنا۔ تَضَوَّع: بمعنی ضَاعَ۔

ضاف: ضَافَ ـضَوفًا عن الشيءِ: سے ہٹنا، تجاوز کرنا۔

ضـان: ا۔ ضَـانَ ـضَـوْنَةً و تَـضَـوَّنَ تَضوُّنًا: کثیر الاولاد ہونا۔ الضَوْنَة (مص): چھوٹی لڑکی۔

۲۔ الضَيوَن جمع ضَياوِن (ح): بلا۔

ضـوَّ: الـضَـوَّة: شور و غوغا، چیخ پکار، ہنگامہ، کہرام، لڑائی کا شور۔

ضوی: ا۔ ضَـوِيَ ـضَـوًى: پیدائشی یا دبلے پن سے پتلی ہڈی والا ہونا۔ أضْوَى: نحیف و دبلا ہونا ـــ الرجُلَ: کو کمزور کرنا ـــ ہُ حقَّهُ: کو اس کا حق کم دینا ـــ الأمرَ: کچا کام کرنا ـــ ت المرأةُ: عورت کا کمزور بچہ جننا۔ الـضَاوِي م ضاوِيَّة: کمزور، دبلا، پیدائشی یا کمزوری کی وجہ سے دبلے پتلے جسم والا۔

۲۔ ضَوَى ـضَيًّا و ضُوِيًّا إليه: سے جا ملنا، کی پناہ لینا۔ ـــ ہُ اليه: کو کی طرف مائل کرنا۔ أضْوَى ہُ إليه: کو کی طرف مائل کرنا، جھکانا۔ اِنْضَوَى اِنْضواءً اليه: کے ساتھ اتحاد کرنا، سے متحد ہو جانا۔

۳۔ ضَوَى ـضَيًّا و ضُوِيًّا الرجُلُ: رات کو آنا۔ الضَاوِي (فا): رات کو آنے والا۔

ⓒ ضَوَى ـضَوًى إلى: کے پاس جانا یا کرنا، سے رجوع کرنا۔ ضَوِيَ ـضَوًى: کمزور ہونا، پتلا ہونا، دبلا ہونا، دھان پان ہونا، چھوٹا ہونا۔ أضْوَى ہ/ ھ: کو کمزور کرنا، کمزور، ناتوان یا ضعیف بنانا یا کرنا، کو تکلیف پہنچانا، زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، سے دل پھیرنا۔ إنْـضَوَى الى: کے ساتھ شامل ہونا، کے نقش قدم پر چلنا، سے لگاؤ ہونا، کے گرد (یا تحت لواء ہ) کے جھنڈے تلے جمع ہونا یا کر بیٹھنا یا چلنا۔

ضاج: ضَاجَ ـضيجًا و ضُيوجًا و ضَيَجَانًا عنه و اليه: کی طرف جھکنا، مائل ہونا ـــ ت عظامُهُ: لاغری کی وجہ سے کی ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاح: ا۔ ضاحَ ـضَيَّحَات البلادُ: ملک کا خالی ہونا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ویران ہونا۔

۲-ضاحَ -ضَیحًا اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا-ضَیَّحَ اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا- فلانًا: کو پانی ملا دودھ پلانا-تَضَیَّحَ اللبنُ: دودھ کا پانی کی ملاوٹ والا ہو جانا- الرجلُ: پانی ملا دودھ پینا-الضَیح (مص): شہد- والضَیاح: پانی ملا دودھ، شوربا-الضَیحة: پانی ملے دودھ کا شروب-عیشٌ مَضیُوحٌ: ملاوٹی غذا۔

ضار: ضارَ -ضَیرًا ہُ الامرُ: کام یا بات کا کسی کو نقصان دینا، ایذا دینا۔

ضاز: ضازَ -ضَیزًا: ظلم کرنا- ہُ حقہُ: کو اس کا حق کم دینا-الضَیز (مص): ٹیڑھا پن، کجی-قِسمةٌ ضِیزَی: ظالمانہ تقسیم۔

ضاط: ضاط -ضَیطًا و ضَیَاطانًا فی مشیته: موٹاپے کی وجہ سے چلنے میں جسم اور کندھوں کو ہلانا۔ صفت: ضَیطان و ضَیّاط۔

ضاع: ۱-ضاعَ -ضَیعًا و ضِیعًا و ضَیعةً و ضَیاعًا: ضائع ہونا، ہلاک ہونا، تلف ہونا، بیکار ہونا۔ صفت: ضائع جمع ضُیَّع و ضِیاع۔ ضَیَّعَ الشیءَ: کو کھونا، گم کرنا، نظر انداز کرنا، ہلاک کرنا۔ مثل ہے: الصیفَ ضَیَّعتِ اللبنَ: تو نے دودھ تو گرمیوں میں ہی ضائع کر دیا-أضاعَ ہُ: کو ضائع کرنا-الضَیاعُ (مص) والضِیعُ الضِیَع۔ کہا جاتا ہے: مات ضَیاعًا و ضِیعًا و ضَیعًا: اس کے مرنے پر کسی نے اس کی کمی کو بری طرح محسوس کی اور نہ کوئی اس کے بارے میں پریشان ہوا-الضَیعَة: تصغیر-ضُیَیعَة جمع ضِیَع و ضِیاع و ضَیعات: ضاع کا اسم مرۃ۔ المِضیاعُ: بہت ضائع کرنے والا-المَضْیَعَة والمَضِیعَة: جہاں ضائع ہونے کے متعدد اسباب ہوں۔ کہتے ہیں: بلدکم مضیعةُ العلمِ: یعنی تمہارے شہر میں علم ضائع ہو رہا ہے۔

۲-أضاعَ الرجلُ: بہت جائداد والا ہونا-الضَیعة (تصغیر ضُیَیعَة جمع ضِیَع و ضِیاع و ضَیعات: جائداد، اچھی فصلیں دینے والی زمین، پیشہ، ہنر، کہتے ہیں: کانت ضَیعَةُ العرب سیاسةَ الإبلِ: عربوں کا پیشہ اونٹوں کی دیکھ بھال تھا۔

۳-تَضَیَّعَ المسکُ: مشک کا بھڑکنا، مشک کی خوشبو کا پھیلنا-الضَیاعُ: ایک قسم کی خوشبو۔

۞ ضاعَ -ضَیعًا و ضَیاعًا علی: کیلئے کھو جانا، گم ہو جانا- ___ : غائب ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، ہلاک ہو جانا-ضَیَّعَ و أضاعَ (ہ/ہ): کو تباہ کرنا، ہلاک کرنا، کی راہ میں حائل ہونا، میں مزاحم ہونا، کو ناکام بنا دینا، بگاڑنا، خراب کرنا، کا ستیاناس کرنا- ___ ہ: کو گنوانا، کھونا، گم کرنا، سے محروم ہو جانا، کو اجاڑنا، اڑانا، ضائع کرنا، بے فائدہ خرچ کرنا، نظر انداز کرنا، میں غفلت کرنا، پر نہ لگ سکنا، (موقع) گنوا دینا۔ أضاعَ صَوابَہُ: طیش میں آنا-ضَیَّعَ حقہُ: اپنے حق سے محروم ہونا-الصیفَ ضَیَّعتِ اللبنَ: تم نے موقع گنوا دیا، کھو دیا-أضاعَ علیه فرصةً: کے ہاتھ سے موقع نکال دینا-اضاعَ الوقتَ: ضائع کرنا۔ ضَیعَة جمع ضِیاع: زمینداری، تعلق، دیہی جائداد، جاگیر، چھوٹا گاؤں، کھیڑا-ضَیاع: نقصان، خسارہ، تباہی، ستیاناس-ضَیاعُ الوقتِ: وقت کا ضیاع۔ مِضیاع: فضول خرچ، مسرف، ضائع کرنے والا۔ اضاعة الوقت: وقت کا ضائع کرنا۔ ضائع جمع ضُیَّع و ضِیاع: ضائع، گم، غریب، مصیبت زدہ-مَضیعَة: تباہی، بربادی، نقصان-مُضیعَةٌ للوقتِ: وقت کا ضیاع-مُضَیِّع: فضول خرچ، مسرف، ضائع کرنے والا۔

ضاف: ۱-ضافَ -ضَیفًا الیه: کی طرف مائل ہونا، ہٹنا- ___ تِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا- السهمُ عن الهدفِ: تیر کا نشانہ سے ہٹ جانا-ضَیَّفَ ہُ الیه: کو اپنی طرف جھکانا- ___ الرجلُ: مائل ہونا، ہٹنا- ___ تِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا-أضافَ علیه: جھانکنا، کے قریب ہونا، کا بندوبست کرنا- ___ الشيءَ إلی الشيءِ: کو کی طرف جھکانا، کو کا سہارا دینا، کو سے ملانا- ___ الکلمةَ الی الکلمةِ: خاص طریقہ سے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف نسبت کرنا-تَضَیَّفَ الرجلُ: مائل ہونا- ___ تِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا-تَضایَفَ الوادی: وادی کا تنگ ہونا-إنضافَ الیه: سے مل جانا۔ الضِیفُ: پہلو۔ کہتے ہیں: هو في ضِیفِ فلانٍ: وہ فلاں کے پہلو میں ہے-المُضاف: اتحادی، منہ بولا بیٹا-مَضایِفُ الوادی: وادی کے پہلو۔

۲-ضافَ -ضَیفًا و ضِیافةً ہُ: کا مہمان ہونا۔ (کہتے ہیں: ضافَ الهمُّ فلانًا: پریشانی نے اُسے آلیا)، سے مہمانی طلب کرنا-ضَیَّفَ ہُ: کو مہمان بنانا، کو ضیافت کا کھانا پیش کرنا-اضافَ الرجلَ: کو پناہ دینا، مجبور کرنا- ___ فلانا علی فلانٍ: فلاں کو فلاں پر مہمان اتارنا- ___ تَضَیَّفَ ہُ: کے پاس بطور مہمان آ...

ضیافت طلب کرنا- به: سے فریاد کرنا- من فلانٍ إلی فلانٍ: سے کی پناہ لینا-الضَیفُ: مہمان مفرد اور جمع کیلئے مونث ضَیفٌ و ضَیفةٌ جمع أضیاف و ضُیُوف و ضِیاف و ضِیفان و أضائف: الضَیفَنُ: طفیلی جو مہمان کے ساتھ آئے-الضِیافة: مہمانی-المُضافُ في الحربِ: جنگ میں گھرا ہوا-المَضِیف و المَضِیفَة: مہمان خانہ-المِضیاف: بڑا مہمان نواز، بہت مہمانوں والا، میزبان۔ المَضِیفَة: غم فکر-المُضیفة: غم فکر- ___ جمع مُضِیفات: (آج کل) ہوائی میزبان خاتون (airhostess)

۳-ضافَ -ضَیفًا الرجلُ: خوف کرنا- ___ منه: سے ڈرنا-أضافَ: خوف کرنا- ___ منہُ: سے ڈرنا۔

۴-أضافَ الرجلُ: دوڑنا، جلدی جلدی چلنا۔

۞ ضافَ -ضِیافةً: بطور مہمان رکنا یا ٹھہرنا-ضَیَّفَ ہ: کو مہمان ٹھہرانا، کا مہمان نوازی سے استقبال کرنا، کی مہمان نوازی کرنا، کو کھانا کھلانا، کی دعوت کرنا۔

أضافَ: بمعنی ضَیَّفَ۔ نیز أضافَ ہ إلی: میں کا اضافہ کرنا، کو کے آخر میں لگا دینا، جوڑ دینا، کو میں شامل کرنا، کو سے منتھی کرنا، جوڑنا، مربوط کرنا، کو سے منسوب کرنا، کو سے نسبت دینا، کو پر محمول کرنا-اضاف اسما إلی اسمٍ: نام کی دوسرے سے اضافت کرنا۔ أُضِفْ إلی ذلك ان: مزید برآں یہ کہ-انضافَ الی: میں جمع ہونا، سے منتھی ہونا، مربوط ہونا، کے آخر میں لٹکنا یا جڑنا-إستَضافَ ہُ: کو اپنا مہمان بنانے کی دعوت دینا، کی میزبانی کرنا-انت في ضیافتي: آپ میرے مہمان ہیں-مَضافة: ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، سرائے-مَضیَفة: مہمانوں کا کمرہ، گیسٹ ہاؤس-بالاضافه الی: کے مقابلہ میں، مزید برآں، علاوہ ازیں-مُضافًا إلی ذلك: مزید برآں، علاوہ ازیں۔

ضاق: ضاقَ -ضِیقًا و ضَیقًا: تنگ ہونا۔ صفت: ضَیِّق و ضائِقٌ و ضَیْقٌ- ___ الرجلُ: بخیل ہونا، بخل کرنا-ضَیَّقَ تضییقًا ہُ: کو تنگ کرنا-ضَیَّقَ علیه: مشکل میں ڈال جانا، دباؤ میں ہونا-أضاقَ إضاقةً ہُ: کو تنگ کرنا- ___ الرجلُ: محتاج ہونا، حاجت مند ہونا۔ تَضَیَّقَ: تنگ ہونا-تَضایَقَ: تنگ ہونا- ___ الامرُ به او علیه: پر کام کا مشکل ہونا۔ کہتے ہیں: تضایَقَ القومُ: لوگوں کا کسی جگہ پر بے چینی محسوس کرنا، بے آرامی محسوس کرنا، کشادہ دل نہ ہونا یا کشادہ مکانوں والے نہ ہونا-الضَیق (مص): غم و فکر جس سے سینہ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تنگ ہوجائے،سختی۔ــــ والضیق. شک۔الضِیق (مص) شدت۔الضِیقة والضَیقَة جمع ضِیَق و ضُیَق. بدحالی،افلاس،تنگدستی محتاجی۔الضائِق جمع ضَائقة (جیسے سائدوسادہ): تنگ۔کہتے ہیں: فلانٌ ضائقٌ صدرهُ بکذا فلاں شخص اس سے سینہ تنگ ہے۔الأَضْیَق م ضِیقَی و ضُوْقَی اسم تفصیل (زیادہ تنگ،تنگ تر)۔المَضِیق جمع مَضَایق تنگ جگہ،مشکل کام،آبنائے،(پہاڑی) درہ،تنگ درہ،گھاٹی۔

○ ضاقت به الارض. سمجھ میں نہ آنا کہ کیا کرے،بدحواس ہوجانا۔ضاقَتْ به الحیاة زندگی نے اسے بزدل کردیا،اس پر براوقت آگیا۔ضاقت به السُبُلُ اس سے آگے اس کا بس نہ چلتا تھا،اسکی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے،وہ بدحواس ہوگیا۔ضاقَ ذَرْعاً بـ کے معیار پر پورا نہ اترنا،کچھ کرنے سے قاصر رہنا،کسی چیز کو برداشت نہ کرسکنا،سے اکتا جانا،تھک جانا،بے زار ہوجانا،کے متعلق بے چین ہونا،کا ستایا ہونا۔ضاق عنه ذَرْعًا بمعنی ضَاق ذَرْعاً بـ ضاق صدرُهُ: برہم ہونا،جھنجلایا ہوا ہونا،ناراض ہونا،غصہ میں ہونا۔ضاقت یدُه عن. سے قاصر رہنا،کا نااہل ہونا،اتنا غریب ہونا کہ.........، ضَیَّقَ علی کو دق کرنا،ستانا،پریشان کرنا،زچ کرنا،کچلنا،پرٹوٹ پڑنا،چاروں طرف سے حملہ کرنا،گھیرلینا۔ــــ علی فی: کو کسی چیز کے بغیر رکھنا۔ضَیَّق الحصار: ناکہ بندی سخت کردینا۔ضایَقَ ہٗ: کو پریشان کرنا،دق کرنا،ستانا،زچ کرنا،غصہ دلانا،تنگ کرنا،پر چاروں طرف سے حملہ کرنا،ٹوٹ پڑنا۔ــ ہ / ھ: کو تکلیف دینا،پریشان کرنا،امن تباہ کرنا،میں خلل ڈالنا،کو درہم برہم کرنا،روکنا،کی راہ میں حائل ہونا،میں روڑا اٹکانا،رکاوٹ ڈالنا،کو سخت متاثر کرنا،کو بری طرح پچھاڑنا یا زیر کرنا یا اس پر بوجھ ڈالنا،کی پریشانی کا باعث بننا۔تضایق: تنگ ہونا یا ہوجانا،پریشان ہوجانا۔ــــ من: پر یا کے متعلق ناراض ہونا،غصہ ہونا۔ضِیْقُ ذاتِ الید: غربت افلاس،بےنوائی۔ضِیقُ المقام: کھلی جگہ کا فقدان،محدودیت۔ضَیق النطاق: کھلی جگہ کی عدم موجودگی،تھوڑا فاصلہ،محدود حد،تنگ جگہ۔ضِیق الید: غربت افلاس،بےنوائی۔ضَیِّق: تنگ،کسا ہوا،مضبوطی سے لگا ہوا،مقید،محدود۔ضَیِّقُ الصدر ب: پر پریشان،سے،پر ناراض۔ضیق العقل: تنگ نظر۔ضَیِّقُ النطاق: تھوڑا فاصلہ،تھوڑی دسترس یا رسائی والا،محدود۔ضَیِّقة: تنگ حالات،غربت، افلاس،کوفت سخت اذیت۔ضائِقه جمع ضوائق ناگوار صورت حال، خطرناک صورت مشکلات، مشکل، تشویشناک نازک صورت حال، بحران۔ ضائِقَة العیش: پُرمشکلات حالات۔ضائقة مالیه: مالی مشکلات۔

ضاك: ضَاكَ ـضَیْکًا ت الناقةُ: سخت گرمی کی وجہ سے اونٹنی کا ٹانگیں چوڑی کرکے چلنا اور رانوں کو تھنوں سے نہ ملاسکنا۔صفت: ضَائِك جمع ضُیَّك۔ ـــــ علیه (غیظًا) پر طیش میں بھر جانا۔

ضیل: أَضَال إضالةً و أَضْیَلَ إِضیالاً المکانُ جگہ کا ضال نامی درخت اگانا۔الضال جس کا واحد ضالة ہے: ایک پھل دار درخت جو افریقہ کے شمالی ساحلوں پر اگتا ہے۔الضالة: ہتھیار۔

ضام: ضام ـضَیْماً ہُ: پر ظلم کرنا،دباؤ ڈالنا۔ ـــــ واستضامَہُ حقَهُ: کا حق کم کرنا۔الضَیْم ظلم جمع ضُیُوم۔ضِیمُ الجبل: پہاڑ کا کنارہ۔الضامة: حاجت،ضرورت۔

○ ضَامَ ـضَیْماً ہ: پر ظلم کرنا،کو نقصان پہنچانا،سے ناانصافی برتنا۔اِسْتَضَامَ ہ: بمعنی ضامَ ہ۔ضَیْم جمع ضُیُوم: ظلم،ناانصافی،نقصان۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ط

ط حروف تہجی کا سولہواں اور حروف ابجد کا نواں حرف۔

طاطا ۱۔ طأطأ الرأس وغیرہ سر وغیرہ جھکانا، کہتے ہیں۔ طاطا راسه عن كذا اس نے اس پر اپنا سر نیچا کرلیا۔ ت المرأة سترها عورت کا پردہ ڈالنا۔ الحفرة گڑھے کو گہرا کرنا۔ فلانٌ من فلان کو مرتبے سے گرا دینا۔ ۔ فی قتل القوم لوگوں کو خوب اور شدت کیساتھ قتل کرنا۔ تطأطأ جھکنا، پست ہونا، نیچا ہونا۔ الطأطاء پست زمین۔ (ح) چھوٹا اونٹ، ننھا اونٹ۔

۲۔ طأطأ و بيده گھوڑے کو دوڑانے کے لئے اسکی دونوں کوکھوں میں ایڑ لگانا۔ بيده بالعنان دوڑانے کے لئے باگ کو ڈھیلی چھوڑ دینا۔

ت مطاطی سر جھکائے ہوئے۔ مُطأطأ الراس سر جھکائے ہوئے۔

طب ۱۔ طبَّ ۔ طَبًّا ہُ کا علاج کرنا، کہتے ہیں۔ ما كنتَ طبيباً ولقد طَبِبْتَ او طَبُبْتَ تم طبیب نہ تھے مگر اب طبیب بن گئے ہو۔ الرجل صبر و تحمل سے کام لینا، نرمی کرنا۔ مثل ہے۔ من احبَّ طبَّ: جو دوست رکھتا ہے، نرمی اور تحمل سے کام لیتا ہے، کہتے ہیں۔ اصنعهٔ صنعة من طَبَّ لمن حبّ اس شخص جیسا معاملہ کرو جو کسی کے ساتھ محبت کرے تو نمی کرتا ہے۔ طُبَّ الرجل کسی پر جادو کیا جانا۔ طبّبهٗ کا علاج کرنا۔ طابَّ مطابّةً الامر کسی کام پر توجہ کرنا۔ تطبّبَ زیر علاج ہونا، حکمت کرنا، حکیم بن جانا۔ الرجلُ طبی میدان میں مشغول ہونا، عطائی بننا۔ لفلان کے لئے طبیبوں سے مشورہ کرنا۔ استطبّهٗ سے دوا تجویز کرانا، طبیب سے مشورہ لینا۔ الطبّ (مص) طب جاننے والا، اپنے کام کا ماہر، کہتے ہیں۔ هُوَ طَبٌّ بهذا الامر وہ اس کام سے واقفیت رکھتا ہے۔ والطِبّ الطُبّ جسمانی و روحانی علاج، جادو، نرمی۔ الطَبَّة الطَبّ کا مونث۔ الطِبَاب وہ چیز جس سے علاج کیا جائے۔ کہتے ہیں۔ هذا طِبَابُ مرضك یہ چیز تمہاری بیماری کا علاج ہے۔ الطِبابة طبیب کا پیشہ۔ الطبیب جمع أطِبَّة و اَطِبَّاء م طبيبة: علم طب کا جاننے والا، فن طب کا ماہر و حاذق۔

۲۔ طَبَّ ۔ طَبًّا خَرَزَ القربةِ مشک میں پیوند لگانا۔ طَبَّبَ القربةَ مشک میں پیوند لگانا۔ الطبابة من الخرز دو سوراخوں کے درمیان تسمہ۔

۳۔ طبَّبَ الخيَّاطُ الثوبَ درزی کا کپڑے میں پیوند لگا کر اسے بڑھانا۔ الطِبَّة جمع طِبَب و الطبابة جمع طِبَاب کپڑے، بادل، کھال، یا زمین کا مستطیل ٹکڑا۔

۴۔ الطِبّ ارادہ، خواہش، حالت، عادت کہتے ہیں۔ فلانٌ طِبّهُ المجون فلاں کی عادت مذاق کی ہے۔ الطبَّة کنارہ کہتے ہیں۔ هو فی تلك الطَبَّة: وہ اس کنارہ میں ہے۔

۵۔ طَبْطَبَ طَبْطَبَةً الماءُ او السيلُ پانی یا سیلاب کا آواز دینا۔ الوادی دریا کا بہنا۔ الماءَ پانی کو حرکت میں لانا۔ الطَبْطَابَة گیند کا بلا۔ الطَبْطَبِيَّة مارنے کا کوڑا۔

ت طَبَّ ۔ طَبًّا و طِبًّا و طُبًّا ہ / ھ کا دواؤں سے علاج کرنا، کو طبی علاج مہیا کرنا۔ طبّ ل کا چارہ کرنے کی کوشش کرنا، سے نپٹنا۔ طَبَّبَ ہ / ھ کا علاج کرنا، کو طبی علاج مہیا کرنا۔ تطَبَّبَ طبی علاج کروانا، حکمت کرنا، طبی میدان میں مشغول ہونا۔ استطبَّ ہ سے طبی مشورہ طلب کرنا، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا۔

طبّ طبی علاج، دوا، علم طب۔ طب الاسنان فن علاج دندان، دندان سازی۔ الطب البيطری حیوانات کی بیماریوں اور علاج کا علم۔ (Veterinary Science)۔ الطب الشرعی عدالتی طب Forensic mdecine۔ الطب النفسانی نفسیاتی امراض کا علاج۔ (psychiatry) علم الطب علم طب، طب۔ كُلِّيَةُ الطب طبی کالج (medical college)۔ طبی طبی، علم طب یا طبی پیشہ سے متعلق۔ لائقٌ طِبِّيًّا جسمانی طور پر موزوں Physically fit طَبَّة جمع طَبَّات گدی، تکیہ، ڈاٹ۔ (بجلی کا) پلگ (پانی کا) ڈاٹ، پلگ plug، کاگ Stopper۔ طَبِيب جمع اطبّاء و اَطِبَّة حکیم، ڈاکٹر (physician, doctor) طبیب بیطری ڈنگر ڈاکٹر (veterinarian) طبیب خاص پرائیویٹ ڈاکٹر طبیب الاسنان دانتوں کا ڈاکٹر (dentel surgeon) طبیب شرعی طبی ممتحن medical examiner طبیب الامراض الجلدية جلدی امراض کا ڈاکٹر (Dermatolo- gist) طبیبہ خاتون ڈاکٹر۔ طِبابة طبی علاج، طبی پیشہ۔ تطبیب صحت یاب کرنے کا فن، طبی پریکٹس یا پیشہ۔ مُتَطبِّب عطائی۔

طبج: طَبِجَ ۔ طَبَجًا الرجُلُ بیوقوف ہونا۔ صفت۔ أطبَج ۔ علی رأسه وعلی كل أجوف سر یا ہر کھوکھلی چیز پر مارنا۔ تَطَبَّجَ فی الكلام مختلف رنگوں میں کلام کرنا۔

طبخ ۱۔ طَبَخَ ۔ طَبْخًا و طَبَّخَ اللحمَ گوشت پکانا۔ إطَّبَخَ الرجُلُ پکی ہوئی چیز لینا، اپنے لئے پکانا۔ اللحمَ گوشت پکانا۔ انطَبَخَ پکنا۔ الطَبْخُ (مص) و الطِبْخ پکی ہوئی چیز۔ الطُباخة ہانڈی کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جھاگ، پکی ہوئی چیز۔الطِباخۃ: پکانے کا ہنر، باورچی گری۔الطَبَّاخ: پکانے والا اس کو طباھی بھی کہا جاتا ہے۔عند العامۃ: عوام کے نزدیک انگیٹھی۔مناسب ہے کہ اسے مَنصَب کہا جائے۔طَبَّاخُ العنب و التین عـنـد الـعامۃ: عوام کے نزدیک کہر جو پہاڑوں میں انگوروں اور انجیروں کے پکنے سے پہلے پھیل جاتی ہے اوران کے پلنے کے عمل کو تیز کردیتی ہے۔الـطـبـیـخ ج أطْبِخـۃ: پکی ہوئی چیز، چونہ، پختہ اینٹ۔الـطـابـخ (فـا) شدید بخار، تیز بخار۔الـطـابـخـۃ: طابخ کا مونث۔دوپہر۔المَطْبَخ جمع مَطَابِخ: باورچی خانہ۔المِطْبَخ جمع مطابِخ: کوئی بھی کھانا پکانے کا آلہ، جیسے چولہا۔انگیٹھی، ولایتی چولہا۔ الـمُطَّبَخ و المُطَّبَخ: باورچی خانہ۔التِینُ الـمَطْبُوخ(ط): انجیر سے تیار کردہ ایک کھانا۔

۲۔ طَبَخَ الصبیُّ: بچہ کا بڑھنا۔

۳۔ الـطَبَـاخ و الـطُبَـاخ: مضبوطی، طاقت، موٹاپا کہتے ہیں۔ـمـا فـي کلامہ طباخ: اسکی گفتگو میں کوئی فائدہ نہیں۔الأطْبَخُ: احمق، بہت زیادہ بیوقوف۔

☆ طَبَخَ ـُ طَبْخاً ہ: کو پکانا۔انْطَبَخَ: پکنا، پکوایا جانا۔طَـبْـخ: پکانا۔طباخی، پکائی ہوئی کوئی کھانے کی چیز۔سیلولائڈ Celluloid طَبْـخَـۃ: پکائی ہوئی خوراک کی کوئی چیز، کھانا، ڈش، کھانے کا دور، دور طعام۔طَبَّاخ: خانساماں، باورچی۔طَبِـیْـخ: پکی ہوئی کھانے کی چیز، کھانا۔طِبَاخۃ: پکانے کا فن، طباخی، پکوان کا طریقہ۔طرز طباخی۔ مَطْبَخ جمع مطابِخ: باورچی خانہ، طعام گاہ۔

طبر: طَبَرَ ـُ طَبْراً: کود کر چھپ جانا۔ الـطَبَـر و الطَبَرْزِین: کلہاڑا، یہ دونوں فارسی لفظ ہیں۔الطَبَرِی: طبرستان کا، طبرستان سے متعلق۔

طبز: طَبَزَ ـُ طَبْزاً ہُ: کو بھر دینا۔الطِبْز: پہاڑ کا کونا، نکر (ح) دو کوہانوں والا اونٹ۔

طبس: طَبَسَ ہُ: کو گارے سے لیپنا۔الـطِبْس: ہر ایک کالی چیز۔الـطِبْس (ح) بھیڑیا۔بـحـرٌ طَبِیسٌ: بہت پانی والا بڑا دریا یا سمندر۔

طبش: ا۔ الطَبْش: لوگ۔الطَبْشۃ: بچوں کو مارنے کی لمبی چھڑی۔یہ عام زبان ہے۔فصیح لفظ الـمـخـفـقـۃ ہے۔

۲۔ الطَبْشُورَۃ جمع طَبَاشِیر: چاک

طبع: طَبَعَ ـَ طَبْعاً الشیءَ: کی تصویر بنانا۔علیہ: پر مہر لگانا۔کہتے ہیں۔طبع اللّٰہ علی قلبہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگادی جس سے وہ غور کرنے اور نیکی کی توفیق سے محروم ہو گیا۔ الدِرہَمَ: سکہ ڈھالنا۔ـــ السیفَ: تلوار بنانا، ڈھالنا۔اللّٰہُ الخلقَ: اللّٰہ تعالیٰ کا مخلوق کو پیدا کرنا۔طُبِـعَ عـلـی الـجـهـل: جہالت پر پیدا کیا جانا۔طَبَّعَ الدابۃَ عند العامۃِ: عوام کے نزدیک، جانور کو سدھانا۔صحیح لفظ اضھا ہے۔تَطَبَّعَ: بھرنا، ڈھلنا۔ـــ بطباع ابیہ: اپنے باپ کے سے اخلاق و اطوار اختیار کرنا۔انْطَبَعَ: ڈھلنا، منقوش ہونا، نقش ابھرنا۔الـطَبْع: (مص) جمع طِبَـاع: فطرتی خصلت، نمونہ، شکل مثال کہا جاتا ہے۔اضـربـہُ علی طبع هذا: اسے اس کی شکل پر ڈھالو۔الـطَابِع (فا): فطری خصلت مزاج۔ـــ و الـطَابَع جمع طَوَابِع: انگوٹھی، مہر، چھاپ۔کہا جاتا ہے هـذا کـلامٌ عـلـیـہ طـابَـعُ الفـصـاحـۃ: اس کلام پر فصاحت کی چھاپ ہے۔طـوابـعُ الـبـریـد: ڈاک کے ٹکٹ۔عوام اسے اوراق البُول کہتے ہیں۔الطوابع الأمیریّۃ: رسیدی ٹکٹ۔الـطـوابـع الـقـنـصـلیۃ: وہ ٹکٹ جو قونصل استعمال کرتے ہیں۔الطِبَاع: فطری خصلت، مزاج۔الطَبَّاع: طابع اسم فاعل کا مبالغہ، تلوار ساز۔الطِبَاعۃ: چھاپنے کا پیشہ۔دار الطِباعۃ: چھاپہ خانہ، پرنٹنگ پریس۔الطُبْعَان: مہر لگانے کی چیز۔الطَبِیْعَۃ: فطرت، مزاج، فطری، عادت جمع طَبَائِع: مخلوقات جن سے دنیا بنی ہے جیسے کہتے ہیں۔جـمـالُ الـطـبـیـعـۃ: یعنی دنیا کا حسن۔الـطَـبَـائِـعُ الأربعُ: سردی، گرمی، خشکی، تری۔الـطَـبِـیـعِـی: طبیعت سے مختص، جو ہر چیز کو طبیعت کی طرف منسوب کرے، علم طبیعیات کا ماہر۔علم الطَبِیْعِیَّات: علم خواص اشیاء۔الـمَـطْـبَعَۃ و المَطْبَع جمع مَطَابِع چھاپہ خانہ۔المِطْبَعَۃ جمع مَطَابِع: چھاپنے کی مشین، پریس۔الـمَـطْبُـوع (مفع): قدرتی غیر بناوٹی، غیر ظاہرداری پر مبنی، جس پر طبیعت کی نشو و نما ہوئی ہو۔من الشعراء: بلاتکلف شعر کہنے والا شاعر۔

۲۔ طَبَعَ ـَ طَبْعاً الدلوَ: ڈول بھرنا۔طَبَّعَ الاناءَ: برتن بھرنا۔تـطَـبَّـعَ النهرُ بالماء: دریا کے پانی کا کناروں سے بہہ پڑنا۔الـطِـبْـع جمع طُبُـوع و طِبَـاع: پانی جذب ہونے کی جگہ، پیمانہ بھر مشکیزہ، دریا۔

۳۔ طَبِعَ ـَ طَبَعاً: گندا ہونا، میلا کچیلا ہونا، گندے اخلاق والا ہونا۔السیفُ: تلوار پر زنگ چڑھنا۔صفت طَبِعٌ و أطْبَـع، طَبَّعَ الانـاءَ: برتن گندا کرنا۔الـطَبَـع و الطَبَع جمع أطْبَاع: زنگ، میل، عیب۔الطَبِع: بد خلق، کمینہ خصلت۔سیفٌ طَبِعٌ: زنگ آلود تلوار۔

☆ طُبِعَ علی: کے لئے قدرتی رجحان رکھنا یا میلان رکھنا۔طَبَعَہُ بطابعہ: پر اپنی چھاپ لگانا یا چھوڑنا، کو اپنی امتیازی خصوصیت دینا۔طُبِعَ عـلـیـہ: میں جبلی ہونا، پیدائشی یا خلقی ہونا۔طَبَّعَ ہ: جانور کو پالتو بنانا، سدھانا۔تَطَبَّعَ بطابعِہ: کی خصوصیت اختیار کرنا یا پانا، کی چھاپ رکھنا۔انْطَبَعَ: مہر لگنا، نقش ابھرنا، چھپنا، منقوش ہونا، نقش ہونا، دل میں بیٹھنا۔انْطَبَعَ فی: پر نقش یا ٹھپا چھوڑنا، پر اثر یا تاثر یا دھندلا سا تصور چھوڑنا۔انْطَبَعَ علی: کے لئے افتاد طبع رکھنا۔طَبْعٌ: (کتاب وغیرہ) چھاپنا، طبع، مطلوبہ چیز، چھاپا جمع طِبَـاع: اثر، تاثر، ٹکٹ، مہر، نشان، خصوصیت، انوکھاپن، وصف، طبیعت، مزاج، خو، افتاد طبع، فطرت، خصلت (فطری) میلان۔طـبـعُ الـحـجـر: پتھر کی چھپائی۔طبع الـحـروف: ٹائپ میں چھاپنے کا فن۔تـحـتَ الـطـبـع: زیر طبع۔مُسـوَّدَۃُ الـطـبـع: پروف شیٹ، Proof sheet، گیلی پروف (galley proof)۔اعادۃ لـطـبـع: دوبارہ چھپائی۔طَبْعًا یا بالطَّبْع: قدرتی طور پر، یقیناً، لازماً، قطعی۔سَیِّئُ الـطـبـع: بد باطن، خبیث فطرت، بدمزاج۔شـاذ الـطـبـع: سنکی، منحرف المزاج، نامعقول۔طَبْعَۃ جمع طَبَـعَـات: چھاپنا، چھپائی، مطبوعہ چیز، چھپی ہوئی چیز، چھاپا، اشاعت، ایڈیشن، شمارہ، تاثر، دھندلا سا تصور۔طَبَّـاع: چھاپہ خانہ میں کام کرنے والا، چھاپنے والا۔طِباعۃ فن طباعت آلۃ الطباعۃ: چھاپنے کی مشین Printing Press طباعی: طباعتی طبیعۃ جمع طَبَـائِع: کائنات، عالم طبیعی، کارخانہ قدرت، فطرت قوانین قدرت، نوامیس فطرت، مناظر فطرت، مظاہر فطرت، پیدائشی، فطری یا خلقی مزاج، افتاد طبع، طبیعت، میلان، بدن، جسم، جسم کی ساخت، صحت، جسمانی حالت، بناوٹ، ساخت، ترکیب، خصوصیت، انوکھا پن، شخصیت، انفرادیت، ذہنیت، فطرت، امتیازی خصوصیت، معمول کے مطابق طریقہ، انداز، اسلوب، طور طریقہ، وضع قطع، چال ڈھال، طبیعیات، فطری علم۔بطبیعۃِ الحال: صورت یا حالت کی نری قسم یا نوعیت کی رو سے، قدرتی طور پر، خلقی طور پر، فطرۃً، لازماً، اس وجہ سے، اسی باعث (Ipso facto) عـالِـمُ الـطـبـیـعـۃ: ماہر طبیعیات (physicist) طبیعاتی سائنسدان۔عِـلْـمُ الـطـبـیـعـۃ: طبیعیات، طبیعاتی سائنس۔فـلـسـفـۃُ مـاوراء الـطـبـیـعـۃ یـا فـلـسـفـۃُ مـابـعـد الطبیعۃ: مابعد الطبیعیات۔الهیـات: (metaphy-sics) فوق الطبیعۃ: خارق عادت، مافوق الفطرت Supernatural۔طَبَـائِـعُ الاشیـاء: اشیاء کے خواص، معاملات کی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

حالت طبیعی: نیچر کی، فطری، پیدائشی، جبلی، خلقی،
اصلی، قدرتی، عام، مثالی، معیاری، نارمل، معمولی،
مادی، جسمانی، زمین کا، ارضی، طبیعی، ماہر طبیعیات،
طبیعی سائنسدان، تاریخ طبیعی کا ماہر، ماہر تاریخ موالید
(naturalist) عَالِمٌ طبیعی ماہر طبیعات، طبیعی
سائنسدان۔الطبیعیات طبیعیات، طبیعی سائنس۔
مَطْبَع: چھاپہ خانہ کا دفتر، چھاپہ خانہ، پریس۔مَطْبَعَة
جمع مَطَابِع: چھاپہ خانہ کا دفتر، چھاپہ خانہ، پریس۔
حُرِّیَۃُ المطابع: پریس کی آزادی۔مَطْبَعِی: چھاپہ
کا، چھاپنے والے کا، طباعتی۔خطاء مطبعی اور
غَلْطَةَ مطبعیه: طباعتی غلطی، طباعت کی غلطی، سہو
کتابت (miprint) طباعت یا کتابت کی غلطی
Erratum مَطْبَعْجِي: طابع (printer) مِطْبَعَة
جمع مَطَابِع: چھاپہ مشین، پرنٹنگ پریس۔طَابِع:
چھاپنے والا printer طَابِع: ٹھپا، سر ٹکٹ، نشان،
نشانی، پہچان، امتیازی خصوصیت، جمع طَوَابِع: مہر،
ٹکٹ، نقش، چھاپا، مصنوعہ حروف، طبع طباعت، اثر،
تاثیر، چھاپ، ٹکیہ Tablet گولی (piII) طابع
البرید اور طابع بریدی: ڈاک ٹکٹ۔طابع
تذکاری: یادگاری ٹکٹ۔طابعُ الأصابع: انگلیوں کا
نشان Fingerprint صاحب الطابع: مہر
بردار۔طَبَعَهُ بطابعهِ: کسی چیز یا شخص پر اپنی چھاپ،
نشان چھوڑنا یا لگانا یا رکھنا، کو اپنی خصوصیت دینا یا پہچانا۔
مَطْبُوع: چھپا ہوا، منقوش، یا طباعتی تختی کی صورت میں
ڈھلا ہوا جمع مطبوعات: مطبوعہ چیزیں، مطبوعات،
مطبوعہ، مال، مواد یا شے۔مَطْبُوعٌ بطابعه: کسی شخص
یا چیز کی چھاپ نشان یا تاثیر کا حامل کی خصوصیت سے
ممیز۔مطبوع علی بمعنی مطبوع بطابعه نیز کی
فطری خاصہ کا حامل، اس کی سی فطرت پر ہونے والا۔
مطبوعٌ دَوْرِی: اخبار، رسالہ جو، مقررہ وقت پر شائع
ہوتا ہے۔ periodical قانون المطبوعات:
پریس لاء (press law)

طبق: ا۔طَبِق۔طَبْقاً و طَبَقَات یدُهُ: ہاتھ کا بند ہونا،
پہلو سے لگنا۔یفعلُ الشیءَ: کچھ کرنا شروع کرنا،
کچھ کرنے لگنا۔طَبَّقَ الشیءُ: چیز کا عام ہونا۔
السحابُ الجوَّ: بادل کا فضا کو ڈھک لینا۔۔ الماءُ
وجهَ الارض: پانی کا زمین کی سطح کو ڈھانپ لینا۔
الفرسُ: گھوڑے کا دلکی چلنا۔السیفُ المَفْصِلَ:
تلوار کا جوڑ پر لگ کر عضو کو جدا کر دینا کہتے ہیں۔انه
یطبِّقُ المفصلَ: وہ صحبت میں غالب ہے۔الحاکمُ
فی حکمه: حاکم کا درست فیصلہ کرنا، عصر حاضر کے

ادباء کہتے ہیں۔طَبَّقَ فلاناً: اس نے فلاں شخص کو اپنی
سیاسی رائے وغیرہ کی طرف جھکا لیا۔طَابَقَ طِباقاً و
مُطَابَقَةً المقیَّدُ: قیدی کا قریب قریب قدم رکھنا۔
الرجلُ علی العمل: کا عادی ہونا۔هُ: کے موافق
ہونا۔بین الشیئین: دونوں کو ایک طریقہ پر کرنا۔هُ علی
الامر: کی کسی معاملہ میں مدد کرنا۔بالحق: حق کا یقین
کرنا، اقرار کرنا۔بین قمیصین: قمیصوں کو اوپر نیچے
پہننا۔الفرسُ فی جریه: گھوڑے کا چلنے میں پچھلے
پاؤں کو اگلے پاؤں کی جگہ رکھنا۔أَطْبَقَ الشیء: کو
ڈھانپنا۔الرَّحی: چکی کے اوپر کے پاٹ کو نیچے کے
پاٹ پر رکھنا۔کہا جاتا ہے۔اُطْبِق شفتیك: چپ
رہو۔۔ الشیءَ: کو ڈھکنا۔اللیلُ: رات کا تاریک
ہونا۔۔ ت النجومُ: ستاروں کا کثرت سے ظاہر
ہونا۔۔ الراکعُ: رکوع کی حالت میں اپنے دونوں
ہاتھوں کو دونوں رانوں کے درمیان رکھنا۔ت الحُمّی
علیه: کسی پر بخار کا رات دن چڑھا رہنا۔أَطْبَقُوا
علی الامر: کسی امر پر متفق ہونا۔تَطَبَّقَ وانْطَبَقَ
الشیءُ: چیز کا بند ہو جانا۔تَطَابَقَ القومُ: قوم کا
اتفاق کرنا۔مَا أَطْبَقَ فلاناً: وہ کتنا ہوشیار ہے۔
الطِّبْق: پرندوں کو شکار کرنے کا لاسہ، دن کی ایک
گھڑی، مطابق، کہا جاتا ہے۔هذا طِبقُ ذلك: یہ اس
کے مطابق ہے۔من الناس: لوگوں کی ایک
جماعت۔الطَّبَق: (مص) جمع أَطْبَاق: مطابق، پردہ،
بڑی پلیٹ، طشتری، پیٹھ کے منکے، جماعت گروہ (کہا
جاتا ہے۔مضی طَبَقٌ بعد طبَق: لوگوں کی ایک نسل
کے بعد ایک نسل گزر گئی۔جاءَهُ طَبَقٌ من جراد:
اس کے پاس ٹڈیوں کی ایک جماعت آئی)۔حال
(کہا جاتا ہے: الدهرُ أطباق: زمانہ کے مختلف
حالات ہیں)، زمین کی سطح۔من المطر: ہمہ گیر
بارش، کہا جاتا ہے۔مطرٌ طَبَقٌ و دیمةٌ طَبَقٌ: ہمہ
گیر بارش اور مسلسل ہمہ گیر بارش۔من اللیل و
النهار: رات دن کا بڑا حصہ کہا جاتا ہے۔اقمتُ
عنده طَبَقًا من النهار: میں دن کے بڑے حصہ میں
اس کے پاس رہا۔اُمُّ طَبَق: مصیبت۔بناتُ
طَبَق: سانپ، (جمع) مصیبتیں، کچھوے۔اطباقُ
الرأس: سر کی ہڈیاں۔الطَّبِق: بند۔الطَّبَقَة: مرتبہ،
طبقہ۔الطبقة الاجتماعیة: مدنی الطبع طبقہ۔طبقة
العمال: مزدوروں کا طبقہ، کہا جاتا ہے۔إنَّ کُتُبَهُ الیَّ
طَبَقَةٌ: اس کے خطوط میرے پاس پے در پے آتے
رہتے ہیں۔من البنایة: منزل۔الطِّبَقَة جمع طِبَق و
طِبَق: ...، جال، ...

مطابق کہا جاتا ہے۔هذا طباق ذاك: یہ اس کے
مطابق و موافق ہے۔طباقُ الارض: زمین کی سطح۔
الطَّابِق جمع طَوَابِق: منزل جیسے بنایة ذات طابق
او طوابق: ایک یا متعدد منزلہ عمارت۔الطِّبیق جمع
طُبُق: رات کی ایک گھڑی، مطابق، کہا جاتا ہے: هذا
طَبِیقُ ذاك: یہ اس کے مطابق اور موافق ہے۔التطبیق
عند المُحَدِّثِین: ایک یا زائد شخصوں کو اپنا طرف دار
بنانا۔المُطْبَق: زمین دوز قید خانہ۔الجنونُ
المُطبِق: لگاتار جنون۔سنةٌ مُطْبِقَةٌ: سخت سال۔
الحروف المُطْبِقة: ص، ض، ط، ظ۔المُطبِقات:
مصائب۔المُطَبِّق: صائب الرای۔سحابةٌ
مُطَبِّقَةٌ: ہمہ گیر بارش برسانے والا بادل۔المُتَطابِقة
(ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ، خواہ اس کے حرو
ف کی قیمت کچھ بھی ہو جیسے (ب + خ) = ب۲ + ۲
ب ج + ج ۲ (س + ۱) (س + ۲) س ۲ + ۳ س + ۲
۲۔الطِّبْق: درخت کا پھل۔الطَّابِق (ت): دیوالیہ تاجر کا
اثاثہ۔و الطَّابَق جمع طَوَابِق واطَوَابِیق: کڑھائی،
فرائی پین۔آدھی بکری۔و الطاباق: شیشہ، بڑی اور
پختہ اینٹ (فارسی لفظ) لُطُبَّاق (ن): ایک قسم کا پودا۔

طَبَّقَ ہ: کو ڈھکنا، ڈھانپنا۔بین: دو شکلوں کو منطبق کرنا
یا ٹھیک بٹھانا (جومیٹری) ہ: کو تہ کرنا۔۔ ہ: (ہاتھ)
جوڑنا، باندھنا۔ہ: (گھوڑے کو) نعل لگانا۔ہ
علی: کو پر منطبق کرنا، چسپاں کرنا، لاگو کرنا۔۔: عام
ہونا، ہمہ گیر ہونا، عالمگیر ہونا، دور تک پھیلا ہوا ہونا۔
ہ: کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلانا، میں
سرایت کرنا، رچ بس جانا۔طَبَّقَت شُهرتُهُ الآفاقَ
و طبق ضیتُهُ الخافقین: مشہور زمانہ ہونا، دنیا بھر
میں شہرت حاصل کرنا، کی شہرت کا دنیا بھر میں پھیل
جانا۔طابق بین۔و بین۔کو سے منطبق کرنا، کو سے
مربوط کرنا، کا سے مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا۔ہ: بدل کر
مطابق بنانا، ہم آہنگ بنانا، موافق یا مطابق بنانا،
حساب ملانا، کو کاٹ چھانٹ کر شکل دینا۔ہ/ ہ: کی
ضرورتوں کے لئے کافی ہونا، کے لئے موزوں ہونا، کو
راس آنا، کو پھبنا، سجنا، اچھا لگنا، سے میل کھانا، سے
ملتا جلتا ہونا، اپنے آپ کو کے موافق، ہم آہنگ بنانا۔
۔ ہ: کا جوڑ یا کے برابر ہونا، سے اتفاق کرنا، متفق ہونا،
کو ماننا، کی تعمیل کرنا، کے مطابق ہونا۔أَطْبَقَ ہ: کو بند
کرنا (جیسے آنکھیں منہ وغیرہ بند کرنا)۔۔ ہ/ علی: کو
ڈھکنا۔علی: کو گھر لینا، کو گھیرے میں لے لینا، کا
محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈال لینا، کو حلقے میں لینا، کے
گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کر لینا۔علی: پر اتفاق کرنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

أَطْبَقَ علی یدی اس نے میرا ہاتھ دبایا۔ تَطَبَّقَ ڈھک جانا یا بند ہوجانا۔ اِنْطَبَقَ بمعنی تَطَبَّقَ نیز، تطبق علی پر لاگو، چسپاں یا منطبق ہونا۔ ___ علی کی ضرورتوں کے لئے کافی ہونا، کے لئے موزوں ہونا، کورا س آنا، کو پھبنا، بجنا، اچھا لگنا۔ ___ علی پر صادق آنا، کے مطابق، موافق یا ہم آہنگ ہونا، کے برابر ہونا، کا جوڑ ہونا۔ طِبْقَ کے مطابق، کے مماثل، مساوی۔ طِبْقًا لِ کے مطابق، کے مماثل۔ صورۃٌ طِبْقَ الاصل صحیح نقل، ہو بہو نقل (Exact replica , true copy) طَبَقٌ جمع اَطْبَاق ڈھکنا، پلیٹ، ڈش، اتھلا پیالہ (گول) ٹرے، کشتی یا طشت (جن پر مشروبات و ماکولات وغیرہ رکھ کر پیش کئے جاتے ہیں) خاکستر دان جمع اطباق نیز طباق تر، پرت، طبقہ، متوازی قطار جمع طِباق ڈھیر، بڑی مقدار۔ أَطْبَاقٌ طَائِرَةٌ: اڑن طشتریاں۔ یَدٌ طَبَقَةٌ بند ہاتھ۔ طَبَقَةٌ جمع طَبَقَات زمین، ہوا، معاشرہ وغیرہ کا طبقہ، عمارت کی منزل (ہم مرتبہ لوگوں کا) طبقہ، قسم، زمرہ، درجہ، نسل، پود۔ الطبقة الطُّخْرُورِيَّة بالائی کرہ ہوائی، بالائی فضا (strato-sphere) الطبقات النَجِسَة: ناپاک ذاتیں نجس ذاتیں۔ الطبقة المتوسطة: متوسط طبقہ۔ حرب الطبقات طبقاتی کشمکش، علم طبقاتِ الارض ارضیات۔ معدود فی الطبقة الثالثة تیسرے درجہ کا سمجھا جانے والا۔ طابق جمع طوابق بڑی پختہ اینٹیں، منزل Floor, storey (عمارت کی) الطابق الارضی گراؤنڈ فلور۔ طابَاق جمع طوابیق بڑی اور پختہ اینٹیں۔ تطبیق تصرف، تطابق، تطبیق، انضباط، ہم آہنگی، انطباق، لاگو ہونا، چسپاں ہونا۔ تطبیقی عملی، عملی مقاصد، مقاصد پورے کرنے والا۔ علوم تطبیقیة، عملی علوم۔ طُبَاق و طُبَاق تمباکو۔

طبل: ۱۔ طَبَلَ ۔ طَبْلًا ڈھول بجانا۔ طَبَّلَ: ڈھول بجانا۔ ___ فی المشی عند العامة: چلنے میں تھک جانا، تھکا ماندہ ہوجانا۔ صحیح لفظ بَلَّطَ ہے۔ الطَّبْل جمع طُبُول و أطْبَال (م) ڈھول، یک طرفہ یا دو طرفہ۔ الطُّبَيْلَة: ڈھولکی۔ الطَّبَّال: ڈھول والا، ڈھول بجانے والا۔ الطِّبَالَة: ڈھول بجانے کا پیشہ۔ الطُّبَيْلِيَّة جمع طُبَيْلِيَّات چھوٹا گول میز۔

۲۔ الطُّبَيْلِيَّة جمع طُبَيْلِيَّات: پول ٹیکس۔

○ طَبَّلَ لِ کے لئے ڈھول بجانا یعنی کسی کی مہم میں حصہ لینا، کا، کے لئے پروپیگنڈا کرنا۔ طَبْلَةُ الأُذُن کان کا ڈھول، کان کی جھلی۔ طَبْلَة جمع طَبَلات و طَبَل قفل، تالا۔ طَبْلی: ڈھول کی شکل کا۔ مُطَبَّل بھیگی ہوئی، سیم سیلی، مرطوب (زمین)۔ طُبْلِيَّة جمع طبلات میز۔ طَبْلِيَّة جمع طَبْلِيَات و طَبَالی تپائی اور گول میز، انجن موڑنے والا چکر۔ ٹرے، چوبی کشتی یا طشت۔

طبن: ۱۔ طَبَنَ ۔ طَبْنًا النارَ: آگ کو دبا دینا تا کہ بجھنہ جائے۔ طَابَنَ الحَفِيرَة: گڑھا گہرا کرنا۔ اِطْبَأَنَّ اِطْبِئْنَانًا بالمكان: کسی جگہ میں اطمینان پانا۔ الطَّابُون گڑھا جس میں آگ محفوظ رکھی جاتی ہے۔

۲۔ طَبِنَ ۔ طَبْنًا و طَبِنَ ۔ طَبَنًا و طَبَانَةً و طَبَانِيَةً و طُبُونَةً الشيءَ و للشيءِ: میں ماہر ہونا، ہوشیار ہونا، صفت طَبِن و طَابِن طَابَنَهُ کے موافق ہونا۔ الطِّبْنَة جمع طِبَن زیرکی، ہوشیاری۔

۳۔ الطُّبْن جمع طُبَن مردار جو گدھوں اور درندوں کا شکار کرنے کے لئے بطور چارہ کام میں لایا جائے، عربوں کا ایک کھیل۔ والطَّبْن: بڑی بھیڑ کہا جاتا ہے۔ أَيُّ الطَّبْن هو: وہ کون آدمی ہے؟ الطُّبُن (مو) بانسری، ستارہ، سارنگی۔ و ___ الطُّبْن مردار جس کو گدھوں اور درندوں کے لئے چارہ بنایا جائے، عربوں کا ایک کھیل۔ ___ و الطِّبْن گھر، ہوا کا لایا ہوا کوڑا کرکٹ اور جلانے کی لکڑیاں وغیرہ۔ جمع طُبَن مردار جسے گدھوں اور درندوں کے شکار کے لئے چارا بنایا جائے، عربوں کا ایک کھیل۔ الطُّبْنَة جمع طُبَن: بانسری کی آواز، ایک کھیل۔

۴۔ الطَّبَنْجَة جمع طبنجات طمنچہ (ترکی لفظ)

○ طَبِنَ ۔ طَبَنًا ہوشیار ہونا، ذہین ہونا، سمجھدار ہونا۔ طَبِن: ہوشیار، ذہین، سمجھدار۔ طَابُونَة (طَبُونَة) جمع طابونات ایک چھوٹا، مرتبان کی شکل کا زمین میں گاڑا ہوا تنور، بیکری۔ طَبَّان جمع طَبَّانات: (پہیے کا) ٹائر۔ طَبَنْجَة جمع طبنجات: پستول

طبا: طَبَا ۔ طُبُوًّا و اطَّبَى اِطِّبَاءً هُ: کو پکارنا، بلانا۔

طبی: ۱۔ طَبَى ۔ طَبْيًا هُ: کو آگے سے کھینچنا۔ ___ هُ اليه کو اپنے پاس بلانا۔ ___ هُ عنه کو اپنے سے دور کرنا۔ أَطْبَى اطْبَاءً هُ کو بلانا، پکارنا۔

۲۔ طَبِيَ تَطْبَى طَبًى ت الناقةُ: اونٹنی کا ڈھیلے تھنوں والی ہونا۔ الطِّبْي و الطُّبْي (ع ا) الأطباء: کا واحد، درندے، یا سم دار یا کھر دار، جانور کا پستان۔ الطَّبْوَاء و الطَّبِيَّة من النوق: ڈھیلے تھنوں والی اونٹنی۔

طث: طَثَّ ۔ طَثًّا الشيءَ: کو ہاتھ یا پاؤں سے مار کر اس کی جگہ سے ہٹانا۔ الطَّثّ (مص) بچوں کا ایک کھیل جس میں گول لکڑی کو پھینکتے ہیں، اس گول لکڑی کو مِطَثَّة کہتے ہیں۔

طثر: طَثَرَ ۔ طُثُرًا و طُثُورًا و طَثَر اللبنُ: دودھ کا بالائی والا ہونا۔ صفت طَاثِر۔ أَطْثَر الشيءَ: کو زیادہ کرنا۔ الطَّثْرَة: بالائی، کیچڑ، کائی، غلیظ پانی، وسعتِ عیش، بھیڑ کی اون۔

طجن: طَجَنَ ۔ طُجْنًا و طَجَّنَ الشيءَ: کو بھونا۔ الطَّاجِن و الطَّيْجَن جمع طَيَاجِن و طَوَاجِن کڑاہی (یونانی لفظ) المُطَجَّن (ط) کڑاہی میں بھنا ہوا۔

○ طَاجِن جمع طَوَاجِن فرائی پان، مٹی کا اتھلا برتن۔

طح: ۱۔ طَحَّ ۔ طَحًّا هُ کو پھیلانا۔ انْطَحَّ پھیلنا۔ الطُّحْطُح کھر چنین۔ الطَّحَان پھیلی ہوئی زمین۔

۲۔ اطَّحَّ هُ کو گرانا، پھینکنا۔

۳۔ طَحْطَحَ هُ: کو توڑنا ___ القومَ و بالقوم: قوم کو متفرق کرنا، ہلاک کرنا۔ ___ ماله: مال کو بکھیرنا۔ الرجلُ ہلکی ہنسی ہنسنا۔ تَطَحْطَحَ: ٹوٹنا، بکھرنا۔

طحر: ۱۔ طَحَرَ ۔ طَحَرَت العينُ قذاها: آنکھ کا خس و خاک کو نکال پھینکنا صفت طَحُورَة۔ ت الريحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اڑا لے جانا۔ الطَّحْر و الطَّحَر: پتلا متفرق بادل۔ ___ الطَّحْرَة و الطِّحرية: بادل کا ٹکڑا۔ الطَّحُور: جلد باز۔ ___ والمِطْحَر من القسي: تیر دور پھینکنے والی کمان۔ الطُّخْرُور جمع طَخَارِير: بادل کا ٹکڑا۔ الطَّخَارِير بادل کے ٹکڑے

۲۔ طَحَرَ ۔ طَحْرًا و طَحِيرًا و طُحَارًا: ٹھنڈی سانس لینا۔ آہ نکالنا۔ الطُّحَار: آہ۔

۳۔ طَحْرَبَ: دوڑ کے بھاگ نکلنا۔ القِرْبَةَ: مشک بھرنا۔ الطِّحْرِب: کوڑا کرکٹ۔ الطِّحْرِبَة: بادل یا کپڑے کا ٹکڑا۔ (طاء و راء پر تینوں اعراب کے ساتھ)

طحل: ۱۔ طَحَلَ ۔ طَحْلًا هُ: کی تلی پر مارنا۔ طَحِلَ ۔ طَحَلًا و طَحَلًا: کی تلی کا بڑھ جانا۔ طُحِلَ طَحْلًا: تلی کی شکایت ہونا۔ صفت مَطْحُول۔ الطِّحَال جمع أَطْحِلَة و طُحُل و طِحَالات (ج ا) تلی۔ الطُّحَال (طب) تلی کی بیماری۔ الطَّحِل: بڑی تلی والا۔

۲۔ طَحَلَ ۔ طَحْلًا الاناءَ: برتن کو بھر دینا۔ الطَّحِل: بھرا ہوا۔ غضبناک۔

۳۔ طَحِلَ ۔ طَحَلًا و طَحَالًا الماءُ: پانی کا خراب ہو جانا۔ الطَّحِل: کائی والا پانی۔

۴۔ الطُّحْل عند العامة باریک تنکے وغیرہ۔ فصیح الحثا ہے۔ الطُّحْلَة خاکستری رنگ۔ الأَطْحَل م طَحْلاء جمع طُحْل خاکستری رنگ کا۔

۵۔ طَحْلَبَ الماءُ: پانی کا کائی والا ہونا۔ صفت مُطَحْلَب

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

و مُطَحْلِب ۔ ت الارضُ: زمین کا سرسبز ہونا۔ الطُحْلُب و الطَحْلَب و الطِحْلِب(ن): کائی۔ الطِحْلِبَة کہاجاتا ہے۔ مَا عَلَيْهِ طِحْلِبَة: اس پر کوئی بال نہیں۔

۲۔ طَحْلَبَ الرجُل: کوقتل کرڈالنا۔

ⓙ طُحَال و طَحُل: تلچھٹ، درد، گار۔ طِحال جمع طِحالات و طُحُل: تلی۔ طُحال ورم طحال، تلی کا ورم۔ مَطْحُول: بیمار تلی والا، تلی کا مریض۔ طُحْلُب: اسم جنس واحد طُحْلُبَة جمع طَحَالِب: کائی۔

طَحَمَ ۔ طَحْمَةً عليه: پرکودنا، حملہ کرنا، (عوام کے کلام سے متعلق ہے قحم کی تحریف بھی ہوسکتا ہے۔ الطُحْمَة، الطَحْمَة و الطِحْمَة من الناس: لوگوں کی جماعت۔ ـمن السيل: سیلاب کا زور۔ ـمن الليل: رات کی بہت تاریکی۔ الطُحْمَة: سخت جنگجو، بہت سے اونٹ۔ الطَحُوم: تیز بہنے والا دریا۔ المَطْحُوم: بھرا ہوا۔

طحن ۱۔ طَحَنَ ۔ طَحْنًا و طَحَّنَ البُرّ: گیہوں پیسنا۔ المنيةُ القومَ: موت کا لوگوں کو ہلاک کرنا۔ تَطَحَّنَ: پسنا۔ الطِحْن و الطَحِين: آٹا۔ الطَاحِنة جمع طوَاحِن طَاحِن کا مونث۔ داڑھ۔ الطَحَّان: آٹا پیسنے والا، آٹا بیچنے والا۔ الطِحَانَة: آٹا پیسنے کا پیشہ۔ الطَّاحُون و الطَاحُونَة جمع طَوَاحِين: چکی، پیسنے کی جگہ۔ الطَحُون و الطَحَّانة: جنگ، بڑا لشکر، بہت سے اونٹ۔ المِطْحَنة جمع مَطَاحِن: چکی، خواہ پانی سے چلتی ہو یا ہوا سے یا سٹیم سے۔ المَطْحَنة جمع مَطَاحِن: پیسنے کی جگہ۔

۲۔ طَحَنَ ۔ طَحْنًاتِ الافعى: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ صفت مِطحان۔

ⓙ طحَن ۔ طَحْنا ہ / ہ: کو کچل ڈالنا، تباہ کردینا، برباد کردینا۔ ہ: کو تھکا دینا (عمر یا سالوں کا) کی جان لینا۔ تطَاحَنَ: ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑنا، تو تو میں میں کرنا، مخالف یا معاند ہونا، ایک دوسرے سے متصادم ہونا، باہم گر آویزاں ہونا، اختلاف رائے رکھنا۔ طحن و طحِين: آٹا، موٹا آٹا۔ طَحِينِى: آٹے کا سا، خشک سا، آٹے دار۔ طَحِينِيَة: تل، آٹے اور چینی سے بنی ہوئی ایک مٹھائی۔ طَحِينَة: تلوں کے تیل سے بنی ہوئی گاڑھی چٹنی، سلاد اور سبزیوں کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ طَاحُونَةُ الهوا: ہوا چکی۔ مِطْحَنة جمع مطَاحِن: چکی، گرائنڈر۔ مَطْحَنة جمع مَطَاحِن: آٹا مل۔ طَاحِن: ڈاڑھ، گرائنڈر۔ طَاحِنَة: داڑھ، گرائنڈر۔

طحا: ۱۔ طَحَا ۔ طُحُواً: دور ہونا، ہلاک ہونا۔ الشیءَ: کو ہٹانا۔ بالکرة: گیند پھینکنا۔ ـــ القومُ: ایک دوسرے کو ہٹانا۔ الرجُلُ: ملک میں سفر کرنا، کہتے ہیں۔ طحابه همُّهُ: غموں نے اسے بے چین کر دیا۔

۲۔ طَحَا ۔ طَحْواً: لیٹ جانا۔ الشیءَ: کو پھیلا دینا، لمبا کرنا۔ الشیءُ: پھیل جانا، لمبا ہونا۔ بفلانٍ شَحْمُهُ: فربہ ہونا۔ الطَحَا: چپٹی زمین۔ الطَاحِي (فا): پھیلا ہوا، بڑی بھیڑ۔ مَظَلَّة طَاحِيَة و مَطْحُوَّة و مَطْحِيَّة: چھتر، بڑی چھتری، سائبان، شامیانہ۔ بقلةٌ مُطَحِّيَةٌ: دور تک پھیلا ہوا گھاس پھوس، سبزہ زار۔

۳۔ طَحَا ۔ طَحْواً القمرُ: چاند کا روشن ہونا۔ الطَاحِي (فا): بلند۔

طحى: طَحَى ۔ طَحْيًا الشیءَ: کو پھیلانا۔ ـــ الرجُلُ: لیٹنا۔ الطَحْيَة: بادل کا ٹکڑا۔

طخ: طَخَّ ۔ طَخًّا: ترش رو اور بدخلق ہونا۔ ـ الشیءَ: کو پھینکنا، دور کرنا۔ المِطَخَّة: بچوں کے کھیل کی لکڑی۔

۲۔ طَخْطَخَ الشیءَ: کو برابر کرنا، کو ایک دوسرے سے ملانا۔ الليلَ: رات کا تاریک کرنا۔ تَطَخْطَخَ السحَابُ: بادل کا باہم مل کر برابر ہونا۔ الليلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الطَخْطَاخ: گھرا ہوا بادل۔ الطُخَاطِخ: تاریکی۔

۳۔ الطَخْطاخ: بدخلق

طخش: طَخِش ۔ طَخْشاً و طَخَشاًتِ العينُ: آنکھ کا بےنور ہونا۔

ⓙ الطَبقة الطُخرُورِيَةُ: بالائی کرہ ہوا، بالائی فضا۔

طخم: طَخَمَ ۔ طَخْمًا و طَخُمَ ۔ طَخَامَةً: تکبر کرنا۔ إِطْخَمَّ اللحْمُ: گوشت کا خشک ہو کر سیاہی مائل ہو جانا۔ الطُخْمَة: بکریوں کا گلہ۔ الطَخْمَة: ناک کی چوٹی کی سیاہی۔ الأَطْخَمُ: جانور یا آدمی کے ناک کا اگلا حصہ۔ و الطَخِيم: خشک گوشت۔

طخا ۱۔ طَخَا ۔ طُخُوًا و طُخُوًّا الليلُ: رات کا تاریک ہو جانا۔ الطَخَاء: بلند بادل، دل کی گھبراہٹ۔ الطُخْيَة و الطَخْيَة و الطِخْيَة: تاریکی، بادل کا ٹکڑا۔ الطَخْوَاء و الطخْيَاء من الليالي: تاریک رات۔ الطَاخِيَة: سخت اندھیرا۔

۲۔ الطَخْيَة جمع طَخْيُون: بےوقوف۔

طرّ ۱۔ طَرَّ ۔ طَرًّا الماشيةَ: جانوروں کو زور سے ہانکنا۔ الابِلَ: اونٹوں کو اطراف سے جمع کرنا۔ ـــ فلانًا: کو نکال دینا، کو تھپڑ مارنا۔ أطرّهُ: کو دھتکار دینا۔ هُ على الامرِ: کو کسی کام پر ابھارنا، اکسانا۔

۲۔ طَرَّ ۔ طَرًّا القومَ: لوگوں کے پاس سے گزرنا۔ طرًّا

marfat.com

(حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے)

۳۔ طَرَّ ۔ طَرًّا السكِينَ: چھری تیز کرنا۔ ـــ البنيانَ: عمارت کی مرمت کرنا۔ الحوضَ: حوض کو لیپنا۔ سنانٌ طرِير: تیز نیزہ۔

۴۔ طَرَّ ۔ طَرًّا الشیءَ: کو کاٹنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔ ت الابلُ الجبالَ: اونٹوں کا پہاڑ کو طے کرنا۔ المالَ: مال چھین لینا۔ اسی سے ہے طَرَّ عَقلَهُ: اس نے اس کی عقل چھین لی۔ طَرَّرَتِ الجاريةُ: لڑکی کا اپنے پیشانی کے بال سنوارنا۔ اَطَرَّهُ: کو کاٹنا۔ الطُرُّ جمع أطْرَار: طرف، کنارہ کہا جاتا ہے: هو يحمي أطْرَارَ البلادِ: وہ ملک کے اطراف کا دفاع کرتا ہے۔ الطُرَّة جمع طُرَّات و طُرَر و طِرار و أطْرَار: پیشانی کے بال۔ پیشانی، کپڑے کا نقش و نگار، ہر چیز کا کنارہ اور طرف، کتاب کا حاشیہ، نہر یا وادی کا کنارہ، بادل کا لمبا ٹکڑا۔ الطَرَّار: جیب تراش، جیب کترا۔

۵۔ طَرَّ ۔ طَرًّا و طُرُورًاتْ يدُهُ: کے ہاتھ کا گر جانا۔ الرجُلُ من السطحِ: چھت سے گر جانا۔ اَطَرَّهُ: کو گرا دینا۔

۶۔ طَرَّ ۔ طَرًّا و طُرُوراً الشَارِبُ او النباتُ: مونچھ یا پودے کا اگنا۔ ت النجومُ: ستاروں کا روشن ہونا۔ الطَرَّة: طَرَّ کا اسم مرتا۔ غلامٌ طارٌّ او طَرِيرٌ: لڑکا جس کی مونچھیں نکل آئی ہوں۔

۷۔ الطَرَّة: کولہا۔ الطُرَّة: طُغرا (صحیح لفظ طُغراء ہے) الطِرِّيان: طباق، سینی۔ غضبٌ مُطِرّ: بے موقعہ کا غصہ، بے محل کا غصہ۔ المُطَرَّة: عادت۔

ⓙ طَرَّ ۔ طَرًّا و طرورًا ہ: کو تیز کرنا، سان پر لگانا۔ طَرَّ (مونچھوں، بالوں کا) اُگنا۔ طُرًّا: سب ملا کر، کل بحیثیت مجموعی، سب کے سب بلا استثناء۔ طُرَّة: جمع طُرَر: پیشانی کے بال، گانٹھوں والا کپڑا یا رومال (سر پر باندھنے کا) طَرَّار جمع طَرَّارة: طنبور یا دف بجانے والا، ٹھگ، دھوکے باز، بدذات۔

طرأ ۱۔ طَرَأَ ۔ طَرْءًا و طُرُوءًا عليهم: دور سے اور اچانک کسی کے پاس آجانا۔ کہا جاتا ہے: طَرَأَ عَلَيَّ هم لا اطيقه: اچانک مجھے ایسے غم نے آلیا جو نا قابل برداشت ہے۔ الطَارِئُ (فا) جمع طُرَّاء و طُرَاء: اجنبی، غیر حقیقی، نقلی۔ الطَارِئَة جمع طَوَارِئ و طَارِئَات الطاری کا مونث۔ مصیبت، وہ لوگ جو کسی شہر میں رہتے ہوں مگر ملک کے باشندے نہ ہوں۔ غیر ملکی لوگوں کی بستی۔ الطُرآن: ناپسندیدہ غیر معلوم بات۔ کہتے ہیں۔ حمام طُرآني: کبوتر جس کے متعلق پتہ نہ کہ کہاں سے آیا ہے۔ كلامٌ طرآني: تہذیب سے گرا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہوا کلام۔

۲- طَرُوَ - طَرَاءَ ةً و طِراءً النباتُ و نحوہ: نباتات کا تروتازہ ہونا صفت طَرِیٌّ

۳- أطراہُ: کی بہت تعریف کرنا۔

۴- الطُّرآن: راستہ۔ طُراۃُ السیل: سیلاب کا ریلا۔

◌ طَرَا - طَرا و طُرُوءً ا علی: پر اچانک آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، کو اچانک آلینا، پر واقع ہونا، پڑنا، کو پیش آنا۔ علی/ل: کو کا خیال آنا۔ طَرَأتْ علیہ فِکرۃٌ: اسے ایک خیال سوجھا۔ لم یطرأ علی الحالۃ تبدُّلٌ یُذکر: صورت حال میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی یعنی صورت حال تقریبا پوری طرح جوں کی توں رہی۔ أطْراہُ: کی تعریف کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا۔
طَرِیٌ: تروتازہ، نیا۔ طَارِیٌ: اجنبی، غیر متعلق، بیرونی، خارجی، غیر معمولی، اتفاقی، ناگہانی، غیر ارادی، نامتوقع، ہنگامی، غیر متوقع، اچانک آنے والی تبدیلی، یا نیا عنصر، غیر متوقع ملاقاتی، اچانک ہلچل، جوش، تحریک، لہر، ترنگ۔ طَارِئۃ جمع طَوارِیٌ: غیر متوقع واقعہ، حالات، اتفاق، نیا عنصر یا پیش رفت، واقعہ، حادثہ۔ حالۃُ الطواری: ہنگامی حالت۔ طُرآنی: غیر معروف اصل کا، جنگلی۔ طَرابُلس: طرابلس الشام: لبنان کا طرابلس۔ طرابلس الغرب: لیبیا کا طرابلس

طرب ۱- طَرِبَ - طَرَبًا: خوشی یا غم سے جھومنا صفت طَرِبٌ - طَرَّبَ: گانا۔ __ ہ: کو خوشی پر برانگیختہ کرنا۔ فی صوتہ: خوش الحانی سے آواز بلند کرنا، سر نکالنا۔ أطْرَبَ و تَطَرَّبَ ہُ: کو خوشی پر برانگیختہ کرنا۔ استَطرَبَ: بہت خوش ہونا۔ فلانًا: اسے خوش ہونے کو کہنا۔ الابلَ: حدی سے اونٹوں کو اُکسانا۔ الطَّرُوبُ و المِطراب و المِطرابۃ: بہت خوش وخرم۔ المُطرِبُ: گانے والا، گویا، گلوکار، نغمہ گر، موسیقار۔

۲- طَرَّبَ عن الطریق: راستہ سے ہٹنا۔ المَطْرَبُ والمَطْرَبۃ جمع مَطارب: تنگ راستہ۔ المَطارِبُ: متفرق راستے۔

۳- الطِّربال جمع طَرابیل: ہر بلند عمارت دور سے نظر آنے والا جھنڈا۔ پہاڑ کی بڑی چٹان۔ طَرابیلُ الشام: شام کے گرجے۔ الطِّربیل جمع طَرابیل: کاتنے کی مشین۔

۴- الطَّرْبُون: تروتازہ شاخ/ٹہنی (سریانی لفظ)

◌ طَرِبَ - طَرَبًا: خوشی یا غم سے جھومنا یا ہلنے لگنا، خوش ہونا، مسرور یا محظوظ ہونا، بہت خوش ہونا، خوشی میں پھولے نہ سمانا۔ طرَّبَ ہُ: کو خوش کرنا، مسرور یا محظوظ کرنا، وجد میں لانا، پر کیفیت طاری کرنا، کو پسند آنا، کی تسکین کرنا، __ گانا، گیت گانا، گنگنانا۔ أطرَبَ ہ: کو خوش کرنا، خوشی سے بھر دینا، وجد میں لانا، پر کیفیت طاری کرنا، کو پسند آنا، کی تسکین کرنا۔ __: گانا، گیت گانا۔ __ ہ: کے لئے نغمہ یا گیت گانا۔ الطَّرَبُ: جمع أطراب: خوشی، سرور، بے حد خوشی، وجد، تفریح، کھیل، موسیقی وغیرہ کے ذریعہ تفریح۔ آلۃ الطرب: موسیقی کا آلہ۔ طَرِبٌ جمع طِراب: خوشی یا غم سے جھومنے یا ہلنے والا، متاثر، خوش، وجد میں آیا ہوا، جس پر کیفیت طاری ہو، مسحور، سحر زدہ۔ طَروب: خوش، زندہ دل، ہنس مکھ، خوش و خرم، شاداں و فرحاں، بشاش، شگفتہ مزاج۔ أطرَب: زیادہ خوش، اچھی موسیقی پیدا کرنے والا، بہتر موسیقار، زیادہ سریلا۔ إطراب: خوشی، مسرت، حظ، لطف، مزا، تفریح۔ مُطرِب: مسرت بخش، راحت بخش، وجد آفریں، دل خوش کن، پسندیدہ، مرغوب، مطبوع، دلچسپ، سریلا، موسیقار۔ گلوکار، گانے والا، گویا۔ مُغنِّیۃ۔ مُطرِبۃ: گانے والی، مغنیۃ۔ طَرْبِیزَۃ: میز۔ طَربوش: ترکی ٹوپی جمع طرابیش، طرابیشی: ترکی ٹوپیوں کا تاجر، سوداگر۔ مُطَربَش: ترکی ٹوپی پہننے والا۔ مُتَطَربِش: ترکی ٹوپی پہننے والا، سفید کالر طبقہ کا رکن، تعلیم یافتہ (متوسط طبقہ کا۔)

طرح ۱- طَرَحَ - طَرحًا الشیءَ و بالشیءِ: چیز کو پھینکنا یا پھینک دینا۔ __ ہُ عنہ: کو سے دور کر دینا کہا جاتا ہے: طرحت النوی بفلان کُلَّ مطرح: فاصلے نے فلاں شخص کو دور کر دیا۔ طَرَحَتْہُ النوی مَطارِحَہا: سفروں نے اسے ادھر ادھر موڑا۔ الثوبَ علیہ: پر کپڑا ڈالنا یا رکھنا۔ __ ت الأنثیٰ: عورت کا حمل گرانا۔ الحاسبُ: حساب کرنے والے کا کسی عدد کو اس سے بڑے عدد سے تفریق کرنا۔ طَرَّحَ: طرح کا مبالغہ کہا جاتا ہے۔ طَرَّحَ الشیءَ: چیز کو پھینکنا، پھینک دینا۔ بہ السفرُ الی ناحیۃ کذا: سفر نے کا کسی کو کسی علاقہ میں جا پھینکنا، پٹخنا۔ الانثی: عورت کا حمل گروانا۔ اِطَّرَحَ ہُ: کو پھینک دینا، دور کر دینا۔ الطِّرح: ڈالا ہوا، پھینکا ہوا، ادھورا گرا ہوا بچہ۔ الطَّرح (مص) و الطِّراح و الطَّرُوح: دور کی جگہ۔ الطَّرحَۃ: اسم مرۃ، ایک بار پھینکنا، ایک سبز رنگ کی چادر۔ عند العامۃ: اوڑھنی۔ الطُّرَّح: ڈالا ہوا، پھینکا ہوا۔ الطَّراحۃ: گدا (عام زبان میں) الطَّریح جمع طُرحیٰ: ڈالا ہوا، پھینکا ہوا۔ المَطرح جمع مَطارح: پھینکنے کی جگہ، بچھانے کی جگہ، کہا جاتا ہے: ما طَرَحَکَ ہذا المَطرح: جس حالت میں تو ہے اس میں تجھے کس چیز نے پھینکا۔ طَرفٌ مِطرَحٌ: تیز نظر۔ المُطَّرَح (مفعول) قولٌ مُطَّرَح: نا قابل التفات بات، قول۔

۲- طَرَحَ - طَرحًا علیہ مسألۃً: کے سامنے مسئلہ پیش کرنا۔ طَارَحَ مُطَارَحَۃً الکلامَ او الشِّعرَ او الغناءَ: سے کلام یا شعر یا گانے میں مقابلہ کرنا۔ تَطارَحَ القومُ الکلامَ او الغناءَ: کلام یا گانے میں باہم مقابلہ کرنا۔ الأُطرُوحۃ: پیش کیا ہوا مسئلہ، مقالہ (The sis)

۳- طَرِحَ - طَرَحًا: خوش عیش ہونا، فراخ زندگی گزارنا۔

۴- طَرِحَ - طَرَحًا: بد خلق ہونا۔

۵- طَرَّحَ البناءَ: عمارت کو بہت بلند کرنا۔ الطَّرُوح جمع طُرُوح: لمبی شاخوں کا درخت خرما۔ رمحٌ مِطرَحٌ: لمبا نیزہ۔

◌ طَرَحَ - طَرحًا ہ/ ب علی: کو پر پھینکنا، ڈالنا، پٹکنا، پٹخنا، اچھالنا۔ ہ/ب: کو پھینکنا، ڈالنا، پٹکنا، پٹخنا، ترک کرنا، کوڑی پر ڈالنا۔ __ ہ/ ہ او ب: کو ہٹانا، ہانک کر لے جانا، لے جانا، نکالنا، نکال باہر کرنا، خارج کرنا، اپنا کہنے سے انکار کرنا، ماننے یا پہچاننے سے انکار کر دینا، سے بے تعلقی ظاہر کرنا، کو مسترد کرنا، سے دستبردار ہونا، سے قطع تعلق کرنا، کی تردید کرنا۔ ہ علی: (کپڑے) کو پر پھینکنا یا ڈالنا، کو کچھ پیش کرنا، کو کوئی دھن یا طرز سکھانا۔ ہ ل: کو کچھ حوالہ کرنا۔ __: کا بچہ ضائع ہونا، کو اسقاط ہو جانا۔ ہ من: کی سے تفریق کرنا، کو سے منفی کرنا، کو سے گھٹانا، کو سے نکالنا، کو سے کم کرنا، کو سے مجرا کرنا۔ طرحہ فی المناقصۃ العامۃ: کے لئے ٹینڈر طلب کرنا، بولی طلب کرنا۔ طرح علیہ سوالا: پر سوال کرنا۔ طرح مسألۃ علی بساط البحث: غور کے لئے سوال پر بحث چھیڑنا، سوال اٹھانا، بحث و غور کے لئے کوئی مسئلہ پیش کرنا۔ طَرَّحَ (ھا): عورت سے اسقاط حمل کرانا۔ طَرَّحَ ہ اطراحًا: کو دور پھینکنا، کو دور پٹکنا یا پٹخنا۔ طَارَحَ ہ ہ: سے کچھ بدلنا، سے کسی چیز کی ادلا بدلی کرنا۔ طَارَحَہُ الکلامَ: سے باتیں کرنا، بات چیت کرنا۔ طارحہ الحدیثَ: سے گپ شپ لڑانا، سے بے تکلفی کی باتیں کرنا، سے گفتگو کرنا۔ طارحہ الاسئلۃَ: کے ساتھ سوالات کا تبادلہ کرنا۔ تَطَرَّحَ: زمین پر گرنا، گر جانا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا۔ تطارَحَ ہ: ایک دوسرے سے یا باہم خیالات کا تبادلہ کرنا۔ انطَرَحَ: پٹکا جانا، پٹخا جانا، اچھالا جانا، پھینکا جانا، مسترد کیا جانا، نکالا جانا، سے قطع تعلق کیا جانا، تردید کیا جانا، اپنے آپ کو نیچے گرانا۔ علی الارض: اپنے آپ کو زمین پر منہ کے بل گرا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دینا۔ —: نیچے پھینکا جانا، ڈالا جانا۔ اطَّرَحَ (ہ) کو دور پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا، مسترد کرنا۔ طَرْح: اخراج، استرداد، نامنظوری، دیس نکالا، جلاوطنی، اسقاط حمل، تفریق، منہائی، کٹوتی مجرائی، کم کرنا۔ طرحُ البحر: سیلابی تہ نشیں مادہ، دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی، ریت وغیرہ۔ طِرح: اسقاط شدہ بچہ۔ طَرْحَۃ جمع طُرَح: اوڑھنی۔ طریح: گرایا ہوا، ڈالا ہوا، پھینکا ہوا، زمین پر پھینکا ہوا یا گرایا ہوا، منہ کے بل پڑا ہوا، نکالا ہوا، جلاوطن کیا ہوا، مسترد، جسے کسی نے نہ اپنایا ہو، تردید شدہ۔ طریح الفراش: صاحب فراش۔ طَرِیحۃ: دیا ہوا کام، سونپا ہوا کام، مفوضہ کام۔ شغل بالطریحۃ: ٹھیکے کا کام، پھٹکل کام، متفرق کام۔ طَرَّاحۃ جمع طَرارِیح: گدا، گھٹنے ٹیکنے کا گدا۔ اطــروحۃ: حاصل مطالعہ (Dissertation) مقالہ (thesis) مَطْرَح جمع مَطَارِح: جگہ جہاں کوئی چیز پھینکی جائے یا بیکار سمجھ کر پھینکی جائے۔ گندگی یا غلاظت کا ڈھیر، جگہ، موقع محل وقوع، علاقہ، مقام، جگہ، حاضرین کا مقام۔ مَطْرُوح: نیچے پھینکا ہوا، ڈالا ہوا، بے کار سمجھ کر پھینکا ہوا، زمین پر پڑا ہوا، منہ کے بل گرا ہوا، تفریق کیا ہوا۔

طرخ: ا۔ الطَرْخان و الطُرخان جمع طَراخِنَۃ: رئیس، سردار (خراسانی لفظ) الطِرِّیخ (ح) ایک قسم کی چھوٹی مچھلی۔ الطَرْخون (ن): عاقرقرحا۔

۲۔ اطْرَخَمَّ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الـرجُلُ: کمزور نظر ہونا۔

طرد: ا۔ طَرَدَ ۔ طَرْدًا و طَرَدًا ہ: کو دور کرنا، ایک طرف کرنا، دھتکارنا۔ -- ہُ من بلادہ: کو جلاوطن کرنا۔ طَرِدَ ۔ طَرَدًا: کھوج لگا کر شکار کا پیچھا کرنا۔ طَرَّدَہُ عن البلد: کو جلاوطن کرنا، خارج البلد کرنا۔ طَارَدَ طِراداً مُطَارَدَۃً الاقرانُ: ہم عصروں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ھم فرسان الطِراد: وہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ أطْرَدَہُ: کو جلاوطن کرنے کا حکم دینا، جلاوطن کرنا۔ تَطَارَدَ القومُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِطَّرَدَ: دور ہونا۔ اِنْطَرَدَ: جلاوطن ہونا (لیکن یہ اچھی لغت نہیں)۔ اِسْتَطْرَدَ لہ: چال کے طور پر کسی کو ظاہر کرنا جیسے وہ شکست خوردہ ہے۔ الـطِراد: (مص) چھوٹا نیزہ۔ الطَرّاد: طارد کا مبالغہ، تیز رفتار جنگی جہاز۔ الطَرِید: دھتکارا ہوا، بھاگنے والا۔ الطَرِیدَۃ جمع طَرائِد: کھوج لگایا ہوا شکار، چرائے ہوئے اونٹ، کپڑے کا بھیگا ہوا ٹکڑا جو تنور میں روٹیاں لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ المِطْرَد جمع مَطَارِد: چھوٹا نیزہ۔ المَطْرَدَۃ: جو چیز پیچھا کرنے کی دعوت دے۔

۲۔ طَرَدَ ۔ طَرْدًا و طَرَدًا الابلَ: اونٹوں کو ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ہانکنا۔ طَرَّدَ السوطَ: چابک اٹھانا۔ اطَّرَدَتِ الأنهارُ: نہروں کا جاری ہونا۔ — الامرُ: کام کا درست طرز پر چلنا، احکام کا مماثل ہونا، معاملہ کا صحیح راستہ پر چلنا۔ القومُ فی المسیر: لوگوں کا سفر میں ایک دوسرے کی پیروی کرنا۔ اِسْتَطْرَدَ: سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا، گفتگو جاری رکھنا، کہنے لگنا، ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونا۔ الیہ الامرُ: تک معاملہ پہنچنا۔ الطَرِد: وہ پانی جس میں جانور گھستے ہوں۔ الطِراد: کہا جاتا ہے: فلانٌ یمشی مشیًا طِرادًا: فلاں شخص سیدھا چلتا ہے۔ الطَرّاد: وسیع جگہ، کشادہ جگہ، طویل دن، لمبا دن۔ الطَرِید: کسی کے بعد یا پہلے پیدا ہونے والا۔ من الایام: لمبا دن۔ الطَرِیدَان: رات اور دن۔ حُکمٌ مُطَّرِد: عام حکم جس میں کوئی استثناء نہ ہو۔ القاعِدۃ المُطَّرِدۃ: عام قاعدہ جس میں استثناء نہ ہو۔ یومٌ مُطَرَّدٌ: لمبا طویل۔

۳۔ الطَرَد جمع طُرُودٌ: کھجور کے پودے۔ الطَرَدان (ز): چھوٹا سا کالے رنگ کا دانہ جو گیہوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ الطَرِیدَۃ جمع طَرائِد: ریشمی کپڑے وغیرہ کا لمبا ٹکڑا۔ المَطْرَدَۃ و المِطْرَدَۃ: شاہراہ، شاہراہ کا درمیان

◌ طَرَدَہ من مَنْصَبِہٖ: کو برخاست کرنا، کی اسکے منصب سے چھٹی کرنا۔ استطرد من ذلک الی قولہ ان: اس پر وہ کہتا رہا، پھر اس نے ...... کے موضوع پر بحث چھیڑ دی، اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ۔ طـرْد: بھگانا، برخاستگی، جلاوطنی، شکار، شہد کی مکھیوں کی فوج، پارسل، گانٹھ، گٹھری، (جمع طُرُود) بَحَثَ مَسْألۃً طردًا عَکْسًا: کسی مسئلہ کا سب گوشوں سے اور اس کے تمام پہلوؤں سے مطالعہ کرنا۔ طَرّاد: تیز رو جنگی جہاز، پشتہ، بند، خصوصاً، سیلابی پشتہ یا بند (دریائے نیل کا) طرّادہ: تیز رو جنگی جہاز۔ طائِرۃُ المُطارَدۃ: لڑاکا ہوائی جہاز، تعاقب کرنے والا ہوائی جہاز، راہ میں حائل ہونے والا ہوائی جہاز۔ استطراد جمع استطرادات: تجاوز، انحراف۔ مُطَّرِد النَسَق: یکساں، بالکل ایک سا۔ مطرد النغم: اکتا دینے والا (گیت)

طرز: ا۔ طَرِزَ ۔ طَرَزًا: بدخلق ہونے کے بعد خوش خلق ہو جانا۔ فی الملبس: فاخرہ اور خوشنما لباس پہننا۔ طَـرَّزَ الثوبَ: کپڑے پر نقش و نگار اور بیل بوٹے ڈالنا۔ تَطَرَّزَ الثوبُ: کپڑے کا بیل بوٹے والا ہونا۔ فی لبسہ: فاخرہ لباس پہننا۔ الطَرْزُ: ہیئت (کہا جاتا ہے) طریقہ، ترتیب۔ الطِراز جمع طُرُز: کپڑے کا نقش و نگار، وہ جگہ جہاں اچھے کپڑے بُنے جاتے ہیں، طریقہ، انداز، اسلوب کہا جاتا ہے۔ ھذا علی طِراز ذلک: وہ اس کے طریقہ پر ہے۔ لیس ھذا علی طرازک: یہ تمہارے طور طریقے پر نہیں۔ الطَرّاز و المُطَرِّز: کپڑوں پر نقش و نگار بنانے والا۔ الطِرازۃ: کپڑوں پر نقش و نگار بنانے کا پیشہ۔

۲۔ طَرَزَ ۔ طَرْزًا ہُ: کو گھونسا مار کر ہٹانا۔

◌ طَرَّز ہ (کپڑے پر) سوزن کاری کرنا۔ — ہ: (کہانی کو) نمک مرچ لگا کر بیان کرنا، پر حاشیہ آرائی کرنا اور زیب داستان کے لئے بڑھانا۔ ہ ب: (ڈش وغیرہ پر) ماکولات و مشروبات جمانا یا سجانا۔ طَرْز جمع طُرُوز: مثال، نمونہ، قسم، بناوٹ، ساخت، چھاپ، مارکہ، وضع، طور طریقہ، طریق اسلوب، طرز، انداز، ڈھب۔ طِراز جمع طُرُز و اَطْرِزَۃ: مثال، نمونہ، طبقہ، بناوٹ، ساخت، چھاپ، مارکہ قسم، نوع، رنگا رنگی، تنوع، وضع قطع، وضع، طریق، طور طریقہ، اسلوب طرز، انداز، ڈھب، سوزن کاری، نوع۔ من الطِراز القدیم: پرانی وضع کی، دقیانوسی، جس کا رواج نہ ہو۔ قدیم الطِرازِ: پرانی وضع کی، دقیانوسی، جس کا رواج نہ ہو۔ مُسَلَّحٌ بأحدثِ طِرازٍ: جدید ترین ہتھیاروں سے مسلح۔ من الطِراز الاول: بہترین، درجہ اول، (First class) کا، نہایت عمدہ۔ (First rate) تَطْرِیز: سوزن کاری۔

طرس: ا۔ طَرَسَ ۔ طَرْسًا الشیءَ: چیز کو مٹانا۔ طَرَّسَ الکتابَ: لکھے ہوئے کو اچھی طرح مٹانا۔ ہ: کو بگاڑ دینا، خراب کرنا۔

۲۔ طَرَسَ ۔ طَرْسًا الکتابَ: کتاب لکھنا۔ طَرَّسَ الکتابَ: کتاب لکھنا۔ البابَ: دروازہ کو سیاہ کرنا۔ الکاتبُ: کاتب کا لکھے ہوئے پر لکھنا۔ الطِرس جمع اَطْراس و طُرُوس: ورق، وہ ورق جس کی تحریر مٹا کر پھر لکھا گیا ہو۔

۳۔ تَطَرَّسَ فی المآکل: عمدہ عمدہ کھانے کھانا۔ عن الشیءِ: کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا۔ سے پرہیز کرنا، گریز کرنا۔

◌ طِرْس جمع اَطْراس و طُرُوس (کاغذ کا) تختہ، کاغذ۔

طرش: طَرِشَ ۔ طَرَشًا: بہرا ہو جانا، صفت أطرش م طرشاء ج طُرْش۔ تَطَارَشَ: جھوٹ موٹ کا بہرا بن جانا، اپنے آپ کو بہرا ظاہر کرنا۔ الطَرَشۃ: بہرا پن۔ الأطْرُش والأطْرُوش: بہرا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲- طَرَش ۔طَرْشاً ہُ بالماء: پر پانی پھینک کر اس کو بھگو دینا (عوام کی زبان میں)۔ البیتَ: مکان پر سفیدی کرنا (عوام کی زبان میں) الطَّرش: سفیدی جو دیواروں وغیرہ پر کی جاتی ہے (عوام کی زبان میں)

۳- الطَّرش (ح) گائے بیل، ڈھور ڈنگر، ریوڑ، گلے، جھنڈ

۴- طرشَمَ اللیلُ: رات کا تاریک ہو جانا۔

ⓒ طرش ۔طَرَشا: بہرا ہونا یا ہو جانا۔ طَرَّش: بہرا ہونے کا تاثر دینا، کرنا، اگلنا۔ طَرَّش ہ کو بہرا کرنا۔ طَرش: سفیدی (جو دیواروں وغیرہ پر کی جاتی ہے) طُرُوش جمع طُرُوش: گائے بیل (کا گلہ) بھیڑوں (کا ریوڑ) طَرَشۃ: بہرا پن۔ اَطْرَش م طَرْشاء جمع طُرْش بہرا۔ اطرش اَسلَکَ: بالکل بہرا (Stone deaf)

طرط ۱- طَرِط ۔طَرَطاً: بے وقوف ہونا، (صفت طرط) ابرو اور پلکوں پر تھوڑے بال والا ہونا، صفت طارِطُ الحاجبین و طَرِطُ الحاجبین اَطْرَطُ الحاجبین ؤ أطرط مونث طَرطاء۔ امرأۃ طَرطاءُ العینین وہ عورت جس کی پلکوں پر بال کم ہوں۔

۲- طَرْطَرَ: فخر کرنا، ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا۔ الطُّرْطُور پتلا لمبا آدمی، لمبی نوکدار ٹوپی، لبنان، شام اور فلسطین میں عورتوں کے سروں پر سجایا جانے والا ایک زیور، کبھی طنطور اور طاسہ بھی کہا جاتا تھا۔ الطَّرطُور (ط) اچار کی ایک قسم۔

۳- طَرْطَقَ طَرْطَقَۃً: اکثر رات کو آنا، دروازہ کھٹ کھٹانا (سریانی لفظ)۔

ⓒ طَرْطَش ہ: پر چھینٹے مارنا۔

طرف ۱- طَرَفَ ۔طَرْفاً عینہُ: آنکھ میں کوئی چیز لگانا جس سے پانی نکلے اور بند ہو جائے صفت مطرُوفۃ۔ اسم طُرفۃ بصَرَہُ او طَرَفَ بعینہ: آنکھ جھپکانا۔ ت عینُہُ: آنکھ کا جھپکنا۔ فلانٌ: دیکھنا، کہا جاتا ہے۔ مابقیت منھم عینٌ تَطرِفُ: وہ سب مر گئے یا قتل کر دیئے گئے۔ طَرَّفَ ہُ کی آنکھ میں کچھ کرنا۔ أطْرَفَ: پلکوں کو بند کرنا۔ الطَّرْف (مص) جمع أطْرَاف: آنکھ کہا جاتا ہے: نَظَرَ بِطَرْفٍ خَفِيٍّ: ڈر یا شرم سے چوری چھپی دیکھنا، دزدیدہ یا نیم باز آنکھوں سے دیکھنا۔ الطِّرف من الناس: ندیدہ جو کسی چیز کو دیکھے تو خواہش کرے کہ وہ اس کے پاس ہو۔ الطُّرْفۃ: طرف کا اسم مرۃ خون کا نقطہ جو آنکھ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ الطارِفۃ جمع طَوَارِف الطارف کا مونث کہا جاتا ہے۔ جاء بطارِفۃِ عین: وہ بہت مال لایا جسے دیکھنے والے کی نظر خیرہ ہو گئی۔ الطَّوارِف: آنکھیں کہا جاتا ہے۔ لاتراہ الطوارِفُ: آنکھیں اسے نہیں دیکھتیں۔ طوارف الخباء: خیمے کا وہ پہلو جو باہر دیکھنے کے لئے اٹھا دیا جاتا ہے۔

۲- طَرَفَ ۔طَرْفاً ؤ: کو کھٹر مارنا۔ ہُ عنہ: کو واپس کرنا، ہٹا دینا۔ طَرَّفَ الخیلَ: سب سے اگلے گھوڑوں کو پیچھے ہٹا دینا۔ تَطَرَّفَ علیھم: پر غارت ڈالنا۔

۳- طَرُفَ طَرَافۃً: نیا خریدہ ہوا مال ہونا یا ہو جانا۔ طَرَّفَ الشیءَ: چیز کو پسند کرنا۔ أطْرَفَ: نئی عمدہ چیز لانا۔ ہُ الشیءَ: کو کا تحفہ دینا۔ تَطَرَّفَ الشیءَ: چیز کو پسند کرنا۔ اِطَّرَفَ الشیءَ: کو نیا نیا خریدنا۔ اِسْتَطْرَفَ ہُ: کو نیا شمار کرنا۔ الشیءَ: کو نیا پانا، پسند کرنا، سے فائدہ اٹھانا۔ الطِّرْف: نیا مال۔ من الناس: وہ شخص جو ملال کی وجہ سے کسی کی صحبت پر برقرار نہ رہے۔ رجُلٌ طِرفٌ فی نسبہ: نئے شرف والا۔ امرأۃٌ طِرفُ الحدیث: اچھی باتیں کرنے والی عورت۔ الطِّرف: نئے شرف والا۔ غیر مستقل جو کسی معاملہ پر قائم نہ رہے یا کسی جگہ پر نہ ٹکے، جو کسی ایک کی صحبت پر قائم نہ رہے۔ الطُّرْفۃ جمع طُرَف: لطیفہ، عمدہ نئی بات۔ الطارِف (فا): نیا حاصل کردہ مال، اس کا مقابلہ میں لفظ تالد ہے۔ طَوارِفُ القرائح: دل لگتی، نفیس اور نئی باتیں۔ الطِّراف: شرافت و بزرگی کہا جاتا ہے۔ تَوارثوا طِرافاً عن طِراف: انہوں نے ورثہ میں شرف و بزرگی پائی۔ الطَّریف جمع طُرَف و طِرافٌ: نادر پھل وغیرہ، نئے مال والا، نئے شرف والا، نادر پسندیدہ بات، لطیفہ۔ من المال: نیا حاصل کردہ مال (مقابلہ میں تلید)۔ الطَّریفۃ جمع طَرائِف الطریف کا مونث کہا جاتا ہے۔ ھل ورائك طریفۃُ خبرٍ تطرفنا بہ: آپ کے پاس کوئی نئی خبر ہے۔ طرائف الحدیث: چیدہ چیدہ باتیں۔ الأُطْرُوفۃ: لطیفہ۔ المُطْرِف من المال: نیا حاصل کردہ مال۔ المطراف (ح): ڈانواں ڈول، اونٹنی جو کوئی سبز چارہ کو چرنے سے اس وقت تک احتراز کرے جب تک کوئی نیا سبز چارہ نہ پا لے۔

۴- طَرَّفَ ہُ: کو کنارہ پر کر دینا۔ بنانَہُ: مہندی سے پوروں کو رنگنا۔ أطْرَفَ کذا بکذا: کسی چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا۔ تَطَرَّفَ: کنارہ پر آنا۔ الشیءُ: چیز کا کنارہ پر ہو جانا، حد اعتدال سے تجاوز کرنا۔ تَطَرَّفَ فی آراءِ ہ: اپنی رائے میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا۔ تَطَرَّفَتِ الشمسُ: سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الشیءَ: کو اطراف سے پکڑنا۔ الطَّرْف جمع أطْراف: کنارہ، ہر چیز کی حد، شریف نوجوان یا مرد۔ الطِّرف جمع أطراف: نجیب الطرفین۔ جمع طُرُوف و أطْراف م طِرْفۃ: اصیل گھوڑا وغیرہ۔ الطَّرَف جمع أطْرَاف و جمع أطاریف: ہر چیز کی حد، حصہ، انتہا، کنارہ، شریف مرد۔ أطْرافُ البدن: دونوں ہاتھ، پاؤں اور سر۔ الناس: ادنیٰ لوگ، اشراف، خاندانی لوگ۔ الرجُلِ: قریبی رشتہ دار۔ الطِّراف جمع طُرُف: فصل کا وہ حصہ جو اطراف سے کاٹا گیا ہو۔

۵- الطُّرْف من النبات: جو پودا ابھی شگوفہ کے غلاف میں ہی ہو۔ الطَّرَف جمع أطْراف و جمع أطاریف: چیز کا ٹکڑا۔ الطِّراف جمع طُرُف: چمڑے کا خیمہ۔ المِطْرَف و المُطْرَف جمع مَطارِف: نقش و نگار والی ریشم کی چادر۔ المَطْرُوف: کولھو (پانی سے چلنے والا)

ⓒ طَرَفَ ۔طَرْفاً و طرف بعینیہ: آنکھیں جھپکنا، پلک جھپکنا، کنکھیوں سے دیکھنا، نیم وا آنکھوں سے دیکھنا۔ طَرُفَ ۔طَرافۃً ۔ (مال وغیرہ کا) نیا حاصل شدہ ہونا، حال ہی میں خریدا ہوا ہونا۔ أطْرَفَ: کوئی نئی، انوکھی نرالی یا عجیب بات کرنا، یا کو نمایاں طور پر لانا، کوئی نئی اور اصلی بات کہنا، کوئی انوکھا زاویہ نگاہ یا خیال رائج کرنا یا متعارف کرانا۔ ہ ب: کو کوئی نئی یا انوکھی چیز پیش کرنا یا دینا۔ تَطَرَّفَ: انتہائی پہلو پر ہونا، انتہائی نقطہ نگاہ یا موقف رکھنا، افراط و تفریط سے کام لینا، یکسر تبدیلی کا حامی ہونا، بنیادی تبدیلیوں کے خیالات کا حامل ہونا۔ طَرْف: آنکھ، سرسری یا اچٹتی ہوئی نظر، نظر نگاہ۔ ما أشار بطرفٍ: اس نے آنکھ نہ جھپکی۔ من طرف خفی: چوری چھپے دزدیدہ، ہوشمندی سے۔ کارتدادِ الطرف: پلک جھپکنے میں، فوراً، فی الفور۔ طَرَف جمع أطراف: زیادہ سے زیادہ یا انتہائی حصہ، سب سے پرے کا نقطہ، حد، انتہا، سرا، کنارا، طرف، پہلو، رخ، علاقہ۔ طَرَفٌ من: کا ایک حصہ، ٹکڑا، پرزہ، کچھ، فریق (جھگڑے یا معاہدہ وغیرہ کا) طَرَف کے ساتھ، پر کی طرف سے۔ جمع اطراف: بازو اور ٹانگیں، ہاتھ پاؤں حصے۔ طَرَفَیِ النھارِ: صبح و شام کو، صبحیں اور شامیں۔ کانوا علی طرفی نقیض: وہ مختلف الرای تھے، انہوں نے باہمی منافرت جاری رکھی۔ کان وإیّاہ علی طرفی نقیض: انہوں نے یکسر متضاد خیالات یا موقف رکھے۔ اطراف البدن: ہاتھ پاؤں۔ اطراف الاصابع: پوریں۔ علی اطراف قدمیہ: پنجوں کے بل۔ اطراف المدینۃ: شہر کے دور افتادہ علاقے۔ الاطراف المتعاقدۃ: معاہدہ کرنے والے فریق۔ بطرف: کی طرف سے، کی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جانب سے۔من طرف: کی طرف سے۔من طرف الِی طرف ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ احزاب طرف الیمین. دائیں بازوؤں کی پارٹیاں۔ جاذبَ اطراف الحدِیث. بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا۔جمع البراعَةَ من أطرافِھَا اعلیٰ قابلیت کا حامل ہونا، اعلیٰ اہلیت کا مالک ہونا، اعلیٰ درجے کا اہل اور علمیت رکھنے والا ہونا۔جمعَ اَطرافَ الشیءِ: کا جائزہ یا خاکہ پیش کرنا، کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا، خلاصہ مطالب بیان کرنا۔فصَّ علیه طرفا (اطرافًا) من حیاته کو اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یا واقعات سنانا۔ طَرْفَة: بطرفِة عین و فی طرفة عین آنکھ جھپنے میں، فوراً علی الفور۔طُرفَۃ جمع طُرَف انوکھاپن، ندرت، نادر شے، نادرۂ روزگار، تجسس، منتخب چیز، عمدہ تحفہ، شاہکار، کامیاب کوشش، نمایاں خصوصیت۔بڑی چیز، اصل بات (Piece deresistance) طَرْفاء واحد طرفاء، ایک سدابہار چھوٹی جھاڑی۔ طَرِیف: عجیب، انوکھا، عمدہ، نادر، نرالا، غیر معمولی۔ طَرِیفة جمع طرائف نادر اور نہایت عمدہ چیز (آرٹ وغیرہ) کا غیر معمولی ٹکڑا۔طرائف. نوادر، عجیب و اقعات، غیر معمولی بیان یا کمالات۔طَرافة نرالی چیز، غیر معمولیت، انوکھاپن، خصوصیت، عجیب شے، تخلیقی قوت۔مطْرَف شال۔تَطَرُّف: زیادتی، اسراف، انتہا پسندی، انتہائی نقطہ ء نگاہ یا موقف، انقلابی سیاست، بنیادی تبدیلیوں کی حمایت پر مبنی سیاست۔ طارِف نیا حاصل شدہ۔متطرف انتہاء پسند، بنیادی تبدیلیوں کا حامی، انتہائی۔جِھة متطرفة دور افتادہ علاقہ۔

۶ـ طرُفَسَ نظر تیز کرنا، بہت کپڑے پہننا۔اللیلُ. رات کا تاریک ہونا۔المورد گھاٹ کا گدلا ہونا۔الماء پانی پر آنے جانے والوں کا زیادہ ہونا۔الطِرْفِسان: تاریکی، اندھیرا، بچھونا۔غالیچہ۔الطِرْفساء تاریک (رات)

طرق: ا۔ طَرَقَ ۔طَرْقًا ہٗ: کو ہتھوڑا مارنا۔ــــ الحِنْطَةَ: چھانٹے ہوئے گندم سے چھوٹے گیہوں کے دانے نکال دینا۔النجّادُ الصُوفَ: اون دھننا۔ـ الشیءَ کو بجانا۔الباب: دروازہ کھٹکھٹانا۔الرجُلُ: جادو منتر کے طور پر کنکریاں ڈالنا۔طَرْقًا و طُرُوقًا القومَ: کے پاس رات کو آنا۔طرَّق الحدیدَ: لوہا کوٹ کر لمبا اور پتلا کرنا۔استَطرَقَ ہٗ: جادوگر سے مشورہ کرنا اور اسے کنکریاں ڈالنے کے لئے کہنا۔الطارق (فا) جمع طُرَّاق و اَطْراق رات کو آنے والا (فک) صبح کا ستارہ۔الطارِقة جمع طَوارِق و طارقات. (طارق کا مونث) مصیبت۔الطَرْق والطرق و الطَرْقَة: مرتبہ۔(ایک دفعہ کہا جاتا ہے۔اتیتُهُ الطَرْقَة طَرْقَتَین: میں اس کے پاس دو دفعہ آیا۔ــ الطرقه جمع طِرَق. طرق کا اسم نوع۔الطِراق: ڈھال وغیرہ پر لگایا ہوا لوہے وغیرہ کا پتر۔الطِراقیة چھاننے پر نکالا ہوا کمزور گندم کا دانہ۔المِطْرَق و المِطرقة جمع مَطارِق. اون دھننے کا ڈنڈا، ہتھوڑا۔

۲ـ طرَقَ ۔طَرَقَت الابلُ الماءَ: اونٹوں کا پانی میں گھسنا۔طَرِف۔طَرْقًا گدلا پانی پینا۔الطَرَق. پانی جمع ہونے کی جگہیں۔ماءٌ مَطْرُوق. وہ پانی جس میں اونٹ پیشاب اور مینگنی کرکے گندہ کردیں۔

۳ـ طرِق طَرَقًا البعیرُ اونٹ کا کمزور، گھٹنے یا ٹیڑھی پنڈلی والا ہونا۔صفت۔اَطْرَق م طَرْقاء جمع طُرْق طُرِق الرجُلُ: کمزور عقل والا ہونا۔اَطْرَقَ: نظریں جھکانا، خاموش رہنا۔اَطْرَقَ راسَهٗ: سر جھکانا، نظریں نیچے کرکے زمین کی طرف دیکھنا۔الی اللھو کھیل کی طرف مائل ہونا۔الطِرِّیق م طِرِّیقة و المِطْراق جمع مَطارِیق. بہت سر جھکانے والا۔المَطْرُوق: (مفع) نرم اور ڈھیلا، بیوقوف اور جنونی۔

۴ـ طَرَّق لهٗ: کے لئے راستہ بنانا۔الموضِعَ: کسی جگہ کو راستہ بنانا، کہا جاتا ہے۔لا تُطَرِّقُوا المساجدَ: مسجدوں کو گزرگاہیں نہ بناؤ۔ــ طریقةً حسَنةً: اچھا طریقہ ایجاد کرنا یا تخلیق کرنا۔ــ ت الحامِل بولدھا: حاملہ کا بچہ کو مشکل سے جننا۔ــ ت القطاةُ: سنگ خوار پرندے کے انڈے دینے کا وقت قریب آنا، کہا جاتا ہے: طَرَّق بحقی: اس نے پہلے تو میرے حق کا انکار کیا پھر اسکو مان لیا۔اَطرق الرجُل: پیدل چلنا۔تَطَرَّقَ الیه: چلنے رہ کر کسی کے پاس پہنچنا۔ــــ الی الأمر کی طرف راستہ تلاش کرنا۔اِطَّرَقَ ت الابلُ اونٹوں کا متفرق ہونا اور سیدھے راستہ کو چھوڑ دینا۔استَطْرَقَ الشیءَ: کو راستہ بنانا۔بین الصفوفَ: صفوں کے درمیان چلنا۔الطِرْقَة جمع طِرَق: طریقہ۔الطُرْقَة جمع طُرَق: راستہ، طریقہ، عادت، طمع۔الطَرِیق جمع طُرُق و اَطْرُق و اَطْرِقة و اَطْرِقاء و جج طُرُقات: راستہ (مذکر و مونث) فقہاء کے نزدیک ایک تو عام راستہ ہے۔النافِذ و الطریقِ العام کہلاتا ہے۔ایک خاص جو غیر النافِذ اور الطریق الخاص: کہلاتا ہے۔الطریقہ جمع طرائق: عادت، حالت، طریقہ، دھاری، کپڑے کا لمبا ٹکڑا، قوم کا شریف اور افضل (فرد) اور جمع کہا جاتا ہے۔ھو طریقةُ قومِهٖ وھم طریقِةُ قومِھم او وھم طرائق قومھم. وہ (ایک) اور وہ (جمع) اپنی قوم کے شریف اور افضل افراد ہیں۔طرائق الدھر زمانہ کے گردشیں۔المطاریق: پیدل چلنے والے لوگ۔

۵ـ طَارَقَ بین الثوبین: کپڑے اوپر نیچے پہننا۔ــــ الظلامُ او الغمامُ: تاریکی یا بادل کا پے درپے آنا۔اَطْرَقَ ت الابلُ اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔تَطارَقَ الشیءُ: لگاتار آنا، آگے پیچھے آنا۔الابلُ اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔اِطّرق ت الابلُ اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے جانا۔جناحُ الطائر: پرندے کا بازوؤں کو لپٹنا۔ــ التُرابُ: مٹی کے ایک حصہ کا دوسرے حصہ پر ترتیب سے رکھا جانا، چنا جانا، رکھا جانا۔الطَرَق (مص) اَطْراق شکن کی سلوٹ، اونٹوں کے نشان۔اَطراقُ البطن پیٹ کے سلوٹ اور بل۔الطِراق جمع طُرُق: جوتی کا چمڑا، چمڑے کا استر۔الطُرْقة جمع طُرَق: تہ بتہ پتھر۔المِطْراق جمع مطاریق. نظیر۔المَطارِیق: اونٹوں کی قطار۔

۶ـ أَطْرَقَ الرجُلُ: مرد کا نکاح کرلینا، شادی کرلینا۔

۷ـ أَطْرَقَ الصیْدَ: شکار کے لئے پھندا لگانا۔الطَرْقِ والطِرْق جمع أَطْراقٌ والطَرَقَة جمع طَرَق: پھندا، جال۔یا ان جیسی کوئی چیز۔

۸ـ الطارِقة جمع طَوارِق و طارِقات: کنبہ، چھوٹا تخت۔الطَرِیقَة جمع طَرائِق: لمبا درخت خرما، خیمہ یا چھتری کا ستون۔ثوبٌ طَرائقُ: پرانا کپڑا۔

○ طَرَقَ اُذُنَهٗ: کے کان پر مارنا، کے کان تک پہنچنا (کوئی بات) طرق ببالہ: کے خیال آنا۔طرق فی ذھنه: کو خیال آنا۔طرق سمعَهٗ و طرق مسامعَهٗ: کے کانوں تک پہنچنا، کے علم میں آنا، کی توجہ میں آنا۔ طرق طریقًا: راستہ پر چلنا، سفر کرنا، راستہ اختیار کرنا یا استعمال کرنا۔طرق موضوعًا: کے موضوع پر ہونا، کے موضوع کے متعلق ہونا، موضوع پر بحث کرنا، موضوع سے بحث کرنا، کسی موضوع پر بحث چھیڑنا، کسی موضوع وغیرہ کے متعلق کچھ کہنا۔اَطْرَقَ: خاموش رہتے ہوئے سر جھکا لینا۔اَطْرَقَ راسَهٗ یا أَطْرَقَ براسِهٖ: اپنا سر جھکا لینا۔تطرّق الیٖ: تک رسائی حاصل کرنے کا خواہاں ہونا، میں سرایت کرنا، کے آر پار ہو جانا۔(کی) تہہ تک پہنچنا، تک پہنچنا، میں آنا۔تطَرَّق الیٰ: (تقریر وغیرہ میں) کسی موضوع کے متعلق کچھ کہنا، کی تفاصل میں جانا، کے متعلق یا پر ہونا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لا یتطرق الیه شکٌّ: غیر مشتبہ کوئی شک وشبہ قابل قبول نہیں۔ طَرْقَة جمع طَرَقات دروازہ پردستک، دستک دینا، دروازہ کھٹکھٹانا، گھونسا، مکہ ضرب، ایک بار۔ طرقتین دو بار۔ طُرْقَة: راستہ، سڑک، گزرگاہ، روش، خیابان، غلام گردش، طریق (مذکر ومونث) جمع طُرُق و طُرُقات: راستہ، سڑک، شاہراہ، لیک، پگڈنڈی۔ طریقُ الجوّ: ہوائی راستہ (Air route) طریقُ البحر: سمندری راستہ (Sea route) طریقٌ رئیسی بڑی سڑک Main road طریقٌ عامٌّ: شاہراہ، شارع عام، عام گزرگاہ۔ طریق عُمُومِیَة: بمعنی طریق عام۔ عن طریق کے راستہ، براہ، کے ذریعے، کے باعث، کے نتیجہ میں۔ عن طریق الجوّ: ہوائی جہاز میں یا سے، طیارے سے۔ مِن طریقِ کے ذریعے، کے باعث کے نتیجہ میں۔ عابِرُ الطریق: سیلانی، پیادہ رو، راہ گیر، راہی۔ قَاطِع الطریق جمع قُطّاعُ الطُّرُق: رہزن، ہٹ مار، قزاق۔ قَطْعُ الطریق: رہزنی۔ کان فی طریقه: سوجھ بوجھ رکھنا، عقل رکھنا، عقلمند، ہوش مند یا زیرک ہونا، مثالی، یا معیاری ہونا۔ طَرِیْقَة جمع طَرائِق و طُرُق: طریقہ، انداز، اسلوب، طور طریقہ، وضع قطع، چال ڈھال، ذریعہ، راستہ، طریقہ کار، نظام، طریق، طرز، مذہب، مسلک، عقائد، یقین، ایمان جمع طرقات و طُرُق: مذہبی بھائی چارہ، درویشی طریقہ۔ طریقة الاستعمال: استعمال کے لئے ہدایات۔ طُرُقی جمع طُرُقیون: ایک مذہبی بھائی چارہ کا پیرو۔ مِطْرَقَة و مِطْرَق جمع مَطارِق: ہتھوڑا۔ مِطْرَاق: ہمہ گیر، کئی پہلوؤں والا، مختلف مہارتوں اور صلاحیتوں کا حامل۔ اِطْرَاقَة: سر کا ایک بار جھکانا۔ استطراق: راہداری۔ عبور کرنے یا گزرنے کی اجازت، مفت گزرنا، یا داخل ہونا۔ طَارِق: دروازہ کھڑکھڑانے والا، رات کو آنے والا مسافر، ملاقاتی۔ طَارِقَة جمع طَوَارِق: بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی، حادثہ، آفت، مصیبت، سانحہ۔ مطروق: (سڑک) پگڈنڈی جس پر اکثر آمدورفت رہتی ہو، یا سفر کیا جاتا ہو، چل چل کر بنی ہوئی پگڈنڈی، موضوع مَطْرُوق: موضع جس پر بہت بحث کی گئی ہو، جس پر بہت کچھ کہا گیا ہو۔ مُطْرِق و مطرق الرأس: سر جھکائے۔

طرم: ا۔ طَرِمَ - طَرَمًا بیتُ النحل: چھتہ کا شہد سے بھر جانا۔ طَرَمًا العسلُ: شہد کا چھتہ سے بہنا۔ الطَّرْم والطِّرْم: شہد۔ الطَرْمَة: یکبارگی۔

۲۔ اِطْرَمّت اسنانُهٗ: دانتوں کا میلا ہونا۔ فوہ مُنہ کا ذائقہ یا بو خراب ہونا، یعنی منہ بدبودار ہونا یا بدمزہ ہونا۔ الطُرامَة: دانت کے اوپر کی زردی، دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا، منہ پر سوکھا ہوا تھوک۔

۳۔ تَطَرَّم فی الکلام: کلام کرنے میں رکنا۔ گڑبڑا جانا۔

۴۔ الطُرْمَة: جگر۔ والطِرْمة والطُرْمة: اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔

۵۔ الطُرْمُوث جمع طَرامِیث: بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی۔

۶۔ طَرْمَحَ البناءَ: عمارت لمبی بنانا۔ الطِرماح و الطُرْمُوح: لمبا۔ الطِرِمّاح: لمبا، مشہور عالی نسب، اونچے عزائم رکھنے والا۔

۷۔ طَرْمَذ: جھوٹا فخر کرنا، لاف زنی کرنا، صفت طِرْمَاذ و طِرمِذان۔

۸۔ طَرْمَسَ: ڈر سے چپ ہونا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، بھاگ جانا۔ الوجهُ: ترش رو ہونا۔ الکاتبُ الکِتابةَ: کاتب کا تحریر مٹا دینا۔ واطْرَمَّسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الطِرماس و الطِرْمِس و الطِرْمِساء: سخت تاریکی۔ الطُرْمُوس و الطُرْمُوسَة: بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی۔ عام لوگ اسے طَلْمُوسَة کہتے ہیں (سریانی زبان کا لفظ ہے)

○ طَرْقَعَ ہ / ب: (چابک کا) کسی چیز میں ورز ڈالنا، --ہ کسی چیز میں درز ڈالنا، کو تڑقانا، چرمر کرنا۔ طارِمة جمع طارمات: جھوکھا، عارضی دکان، کٹیا، جھونپڑا، جھونپڑی، کمرہ، کوٹھری، سٹال (Stall) طُرُمْبَة جمع طُرُمْبات: پمپ (Pump)

طرا: ا۔ طَرُوَ - طُرُوًّا و طَرِیَ - طَرَاوَةً و طَرَاءَةً و طَرَاءً و طَرَاةً الغصنُ او اللحمُ: شاخ اور گوشت کا تروتازہ اور نرم ہونا صفت طَرِیٌّ۔ طَرَّی الشیءَ: کو تروتازہ اور نرم کرنا۔ أَطْرَی اِطْرَاءً فلانًا: کسی کی بہت تعریف کرنا۔ الطَرِیّ: تروتازہ اور نرم۔ الأُطْرُوان من الشباب: آغاز جوانی، ابتداء شباب۔

۲۔ طَرَا - طُرُوًّا علیهم: کے پاس دور سے آنا۔

۳۔ طَرَّی الطیبَ: خوشبوؤں کو مخلوط کرنا۔ — الطعامَ: کھانے میں مسالہ ملانا۔ اِطْرَوْرَی: بدہضمی ہونا، پیٹ پھول جانا۔ الإطْرِیَةُ: سویاں

۴۔ الطَرَا: زمین میں وہ چیز جو غیر جنس زمین سے ہو یعنی مٹی، ریت اور پتھر نہ ہو۔ لاتعداد مخلوق۔

طري: طَرِیَ - طَرًی الیه: کے پاس آنا۔

○ طَرُوَ - وطَرِیَ - طَرَاوَةً: تازہ ہونا یا ہو جانا، رس بھرا یا رسیلا ہونا یا ہو جانا، بھیگا بھیگا ہونا یا ہو جانا ملائم و نرم ہونا یا ہو جانا، پکا ہونا یا ہو جانا۔ طَرَّی ہ کو تازہ کرنا، نرم و ملائم کرنا، رسیلا کرنا، ہلکا کرنا، کو بھگونا، تر کرنا، کو خوشبو لگانا، یا میں خوشبو ڈالنا، کا عطر لگانا۔ أَطْرَی ہ: کی تعریف کے پل باندھنا، تعریف کرنا، کی دل کھول کر تعریف کرنا۔ طَرِیّ: تروتازہ، رسیلا، رس بھرا، نیا بھیگا بھیگا، نرم ملائم، ہلکا۔ طَرَاوَة: تروتازگی، رسیلاپن، بھیگا بھیگا ہونا، نرمی، ملائمت، ہلکا ہونا۔ طراوةُ الخُلق: شرافت، خصائل کی نرمی۔ اِطْرَاء: بہت تعریف۔ طِرْوَادَة: ٹرائے (Troy)

طرز: طَرَزَ - طَرْزًا ہٗ: کو مکا مار کر ہٹانا۔

طسّ: ا۔ طَسَّ - طَسًّا ہٗ: سے جھگڑے میں غالب ہونا، کو خاموش کرنا۔

۲۔ طَسَّ - طَسًّا فی الماءِ: کو پانی میں غوطہ دینا۔ القومُ: دور تک چلا جانا، کہا جاتا ہے۔ ما ادری این طسَّ: میں نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا۔ طَسَّسَ: جانا۔ فی البلاد: میں سفر کرنا، ملک کے آر پار ہو جانا۔

۳۔ الطَسّ جمع أطساس و طُسُوس و طِسِیس و الطِسَّة او الطَسَّة جمع طَسّات و طِسَاس و طِساس: سلفچی، تانبے کا ہاتھ دھونے کا برتن۔ الطَسَّاس: سلفچیاں بنانے یا بیچنے والا۔ الطِساسة: سلفچی بنانے کا پیشہ۔

○ طَازَه: تروتازہ، نرم ونازک، نیا۔ طَازِج: تروتازہ نیا۔ طَزِینَة جمع طَزَازِن: درجن۔ طَسْت و طِست جمع طُسُوت: تسلا، چلمچی، پِٹّی، بیسن۔

طسأ: ا۔ طَسَأَ - طَسْأً و طَسِیَ - طَسَأً: تخمہ ہونا، بدہضمی ہونا، صفت طَاسِیٌ و طَسِیٌّ۔ أَطْسَأَ ہٗ: کو بدہضمی کرنا۔ الطُسَأة: تخمہ، بدہضمی، ہیضہ۔

۲۔ طَسَأَ - طَسْأً منه: سے شرمانا۔

طست: الطَسْت جمع طُسُوت: تسلا، چلمچی ہاتھ دھونے کا تانبے کا برتن (فارسی لفظ)

طسع: طَسَعَ - طَسْعًا فی البلاد: ملک میں جانا۔ طَسِعَ - طَسَعًا: بے غیرت اور مفلس ہونا۔ صفت طَسِع و طَسِیع

طسم: ا۔ طَسِمَ - طَسَمًا: تخمہ ہونا، بدہضمی ہونا۔

۲۔ طَسَمَ - طَسْمًا الشیءَ: کو مٹانا۔ — طُسُومًا: مٹنا۔ الطَسَم: تاریکی، غبار۔ طَسَمٌ او أطْسَام من سحاب: تھوڑے سے بادل۔ الطَسام و الطُسّام و الطُسّام من الغبار: بہت غبار۔

۳۔ طَسَّمَ الموسی: استرا کو چمڑے کی پٹی پر تیز کرنا (عام زبان میں) الطَسْمَة: چمڑے کی پٹی جس پر استرا تیز کیا جاتا ہے (فارسی لفظ)

طشّ: طَشَّ - طَشًّا و أَطَشَّت السماءُ: آسمان سے پھوار برسنا۔ طُشَّ الرجلُ: زکام جیسی بیماری میں مبتلا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہونا۔ الطَّشّ: پھوار۔ الطُّشَّة: (طب) زکام جیسی بیماری۔ الطِشَّة: چھوٹا بچہ۔ الطشاش (طب): زکام کی طرح کی بیماری۔ الطَشاش: نگاہ کی کمزوری، اس سے مثل ہے: الطَشاشُ ولا العمی: محض نگاہ کی کمزوری ہے، اندھاپن نہیں ہے۔ الطَشِيش: پھوار

طشت: الطَّشت: دیکھو الطست (فارسی لفظ)

○ طَسْت و طِشت جمع طُشُوت: تسلا، چلمچی، سلفچی، بیس۔ طَشْقَند: طاشقند، ازبکستان (روس کا) دارالحکومت۔ طَصْلَقَ (ہ): (کوئی کام وغیرہ) غلط طور پر کرنا یا خراب طور پر کرنا، پھوہڑ پنے سے کرنا، اناڑی پن سے کام خراب کرنا، کھیل بگاڑنا، بھونڈے پن سے کام کرنا، دل لگا کر کام نہ کرنا، کام بگاڑنا۔ طَصْلَقَة: غلط یا پھوہڑ پن یا اناڑی پن سے کیا ہوا کام۔

طعم: ا۔ طَعِمَ ۔ طَعْمًا و طُعْمًا الشیءَ: کو چکھنا۔ طُعْمًا و طَعَامًا الطعامَ: کھانا کھانا۔ طَعِمَ ۔ طُعْمًا: پیٹ بھر کر کھانا، سیر ہو کر کھانا۔ کہا جاتا ہے: ما یطعمُ آکلُ ھذا: اس کا کھانے والا سیر نہیں ہوتا۔ طَعَّمَ العظمُ: ہڈی کا گودے دار ہونا۔ طَاعَمَ ہٗ: کے ساتھ کھانا۔ أَطْعَمَ ہٗ: کو کھلانا کو خوراک دینا۔ الشیءُ: مزے دار ہونا، کے مزے میں تبدیلی آنا۔ الشجرُ: درخت کا پھل دینا، اس کے پھلوں کا پکنا۔ تَطَعَّمَ الشیءَ: کو چکھنا۔ مثل ہے۔ تَطَعَّمْ تَطْعَمْ: چکھو تا کہ خواہش سے کھاؤ، اشتیاق پیدا کرنے کے لئے یہ مثل بیان کی جاتی ہے۔ اِطَّعَمَ: مزے دار ہونا۔ ۔ ت الشجرۃُ: درخت کا پھل پکنا۔ اِستَطْعَمَ: چیز کا مزہ پانا۔ ہٗ: سے کھانا طلب کرنا ۔۔۔ الطعامَ: کھانے کا ذائقہ معلوم کرنے کے لئے اس کو چکھنا۔ کہا جاتا ہے: اِستَطْعَمَہٗ الحدیثَ: اس نے اس سے اپنی بات سے لطف اندوز کرنے کی درخواست کی۔ رجُلٌ ذو طَعْمٍ: عقل مند، سمجھ دار آدمی۔ الطُعْم: کھانا۔ (کہا جاتا ہے۔ ھذا طعامُ طُعْمٍ: یہ کھانا کھانے سے کھانے والا سیر ہو جاتا ہے)۔ پرندے یا مچھلی کو شکار کرنے کے لئے ڈالا ہوا دانہ یا چارہ۔ عند العامۃ: زہر۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ وضع لہ طُعْمًا: اس نے اسے زہر دیا۔ الطُّعْمَة جمع طُعَم: خوراک، رزق، کھانے کی دعوت، کسب و کمائی کا ذریعہ، کہا جاتا ہے۔ جعلتُ ضیعتی طُعْمَةً لفلان: میں نے فلاں شخص کو اپنی زمین کاشت کے لئے کرایہ پر دی۔ الطِعْمَة: کھانے کا طریقہ، گزران کا ذریعہ۔ الطَعام: (مص) جمع أَطْعِمَة جمع أَطْعِمَات: کھانا، گیہوں۔ الطَعِم و الطاعِم: خوش خوراک۔ کہا جاتا ہے: أنا طاعِمٌ عن طعامِكم: میں تمہارے کھانے سے مستغنی ہوں (مجھے تمہارے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں)۔ جَزُورٌ طَعُومٌ و طَعِيمٌ: قابل ذبح اونٹ جو نہ مریل ہو نہ فربہ۔ الطَعُومَة: کھانے کے لئے روکی ہوئی بکری۔ الطَعامِيّ: کھانا بیچنے والا۔ المِطْعَام: بڑا مہمان نواز۔ المُطْعَم: رزق دیا ہوا۔ المَطْعَم ج مَطَاعِم: کھانے کی جگہ۔ خوراک۔ المِطْعَم م مِطْعَمَة: کھانے کا حریص، زیادہ کھانے والا۔ المَطْعُوم (مفع): کھانے یا چکھنے کی چیز۔

۲۔ طَعِمَ ۔ طَعْمًا الغصنُ: ایک درخت کی ٹہنی کا دوسرے درخت کی ٹہنی سے مل جانا۔ طَعَّمَ الغصنَ (ز): ٹہنی کو دوسرے درخت کی ٹہنی سے پیوند لگانا ۔۔۔ الصحیحَ (طب): کو ٹیکہ لگانا۔ طَاعَمَ و تَطَاعَمَ الحَمامُ: کبوتر کا اپنی مادہ کی چونچ میں اپنی چونچ ڈالنا۔ أَطْعَمَ الغصنَ: بمعنی طَعَّمَ الغصنَ: إطَّعَمَ: عرب کہتے ہیں: ھو لا یَطَّعِمُ: نہ تو وہ ادب سیکھتا ہے نہ اصلاح ہی اس میں کوئی خوشگوار اثر کرتی ہے۔ المَطْعُوم (ز): پیوند (ٹہنی وغیرہ)۔ ٹیکہ۔ التطعیم (ز): قلم لگانا، پیوند لگانا، پیوند کاری۔

۳۔ طَعِمَ ۔ طَعْمًا و طُعْمًا علیہ: پر قادر ہونا۔ الطُعْم: قدرت۔

○ طَعِمَ ۔ طَعْمًا ہ: کو کھانا، چکھنا، مزے سے چکھنا، کا لطف اٹھانا، سے لطف اندوز ہونا۔ طَعَّمَ ہ: (درخت وغیرہ) کو پیوند لگانا ۔۔۔ ہ ب: کو کا ٹیکہ لگانا ۔۔۔ ہ ب: پر کسی چیز کی پچی کاری کرنا، منبت کاری کرنا۔ أَطْعَمَ ہ ہ: کو کچھ کھلانا، کو کچھ کھانے کے لئے دینا، کو کوئی خوراک دینا، کو کوئی غذا پہنچانا، کو کھانا یا مشروب پیش کرنا۔ أَطْعَمَہٗ من جوعٍ: کی بھوک مٹانا۔ تَطَعَّمَ ہ: کو چکھنا۔ استطعم بمعنی تَطَعَّمَ نیز کھانا طلب کرنا۔ طَعْم جمع طُعُوم: مزہ، ذائقہ، لذت، خوشگوار ذائقہ۔ طَعْمِيَّة: ایک قسم کا سموسہ۔ طُعْم: پیوند، دانہ، چارہ (شکار کو پکڑنے کے لئے) جانور یا پرندہ جو وحشی جانوروں کو پھانسنے کے لئے رکھا جائے، کسی شخص کو خطرہ میں ڈالنے کے لئے فریب دینے والا شخص۔ جمع طُعُوم: چیچک کے ٹیکہ کی دوا، ویکسین، (Vaccine) طَعِم: مزے دار، لذیذ، چٹپٹا، اشتہا انگیز، بھوک لگانے والا۔ طُعْمَة جمع طُعَم: خوراک، چارہ، دانہ، شکار، [illegible] ہو جانا۔ طُعْمَةُ لِمَدافِعِ الحرب: توپوں کا چارہ۔ أَضْرَبَ عن الطعام: بھوک ہڑتال کرنا۔ مَطْعَم ج مَطَاعِم: طعام خانہ، ریستوران۔ کھانے کا کمرہ۔ میس (mess) بحری جہاز پر کھانے کا ہال کمرہ، خوراک، تطعیم: ٹیکہ لگانا۔ inoculation یا Vaccination منبت کاری، پچی کاری، جڑاؤ کا کام، مرقع کام۔

طعن: ا۔ طَعَنَ ۔ طَعْنًا ہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا، نیزہ چبھونا۔ طَعْنًا و طَعَنانًا فی الرجل و علیہ: میں عیب نکالنا، کو طعنہ مارنا۔ تَطَاعَنَ تطاعُنًا و طِعانًا و اِطَّعَنَ القومُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ الطَّعْنَة جمع طَعْن و طَعَنات: نیزے کی ضرب، نیزہ کی ضرب کا نشان۔ الطَّعَّان و المِطْعَن و المِطْعَان جمع مَطَاعِن و مَطَاعِين: بڑا نیزہ باز۔ ھو طَعَّانٌ فی اعراض الناس: وہ لوگوں کی تحقیر کرنے والا ہے۔ وہ گستاخ ہے۔ الطَعِين جمع طُعُن: نیزہ کی ضرب کھایا ہوا۔ الطِعِّيْن: جنگ میں ماہر نیزہ باز۔ المَطْعَنَة: نیزہ بازی۔

۲۔ طَعَنَ ۔ طَعْنًا فی المفازة: بیابان میں جانا۔ فی السِنّ: بوڑھا ہونا۔ الفرسُ فی العِنان: گھوڑے کا لگام کھینچ کر تیز چلنا۔ طَعْنًا و طَعَنَانًا اللیلَ: ساری رات چلنا۔

۳۔ طُعِنَ الرجُلُ: طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ الطاعُون جمع طَوَاعِين (طب): طاعون کی بیماری، پلیگ، وباء سے موت۔

○ طَعَنَ ۔ طَعْنًا ہ / ہ ب: کو کچھ گھونپنا، بھونکنا، چبھونا، کو سے چھیدنا۔ ہ: کو خنجر وغیرہ گھونپنا، بھونکنا۔ فی / علی: کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، کی بدگوئی کرنا، کی ساکھ ختم کرنا، کو لفظوں سے ایذا دینا، کی برائی کرنا۔ فی حکم: فیصلہ کے خلاف دلیل پیش کرنا، فیصلہ کو چیلنج کرنا، حکم کے خلاف اپیل کرنا، حکم پر نکتہ چینی کرنا ۔۔۔ فی: کو غلط ثابت کرنا، کی تردید کرنا ۔۔۔ فی: میں داخل ہونا۔ طعن فی السن: بوڑھا ہو جانا۔ طعن فی قول: عقیدہ کو غلط ثابت کرنا یا اسکی تردید کرنا۔ تطاعن: ایک دوسرے کو زور سے دھکیلنا، ایک دوسرے پر حملہ کرنا، باہم جنگ کرنا۔ مَطَاعِن فی: کے خلاف سب و شتم۔ دشنام طرازیاں۔ طَاعِن و طاعِن فی السن: بوڑھا۔ رسالة طاعنة: سخت ہجو۔ مطعون: طاعون زدہ۔

طغر: طَغَرَ ۔ طَغْرًا ہٗ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ الطُغْرَاء الطُغْرَی جمع طُغْرَاءات و طُغْرِیات: فرامین

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شاہی اور سکوں پر بنائی جانے والی علامت، عوام اسے طُرَّہ کہتے ہیں۔ (ترکی لفظ) الطُغرانی: ایسی علامت بنانے والا۔

○ طُغْراء: مونوگرام۔ ریاستی دستاویزات اور سکّے۔

طغم: ا۔ تَطَغَّمَ علیه: کے بارے میں جاہل بننا۔ الطُغْمَةِ جمع طُغْمات و طُغَم جتھا، ٹولہ، جمعیت، حلقہ، گروہ۔ الطَغَم سمندر، بہت پانی۔ الطَغام: (واحد طَغامَة) کمینے لوگ (واحد جمع) اوباش۔ معمولی پرندے۔ الطَغامَة: بے وقوف۔ الطُغْوَمَة و الطُغومِيّة: بے وقوفی، کمینگی۔

○ طَغام: عام لوگ، عوام، منکسر المزاج، عاجز، غیراہم۔

۲۔ طَغْمَشَ الرجُلُ: کمزور نظر ہونا۔ الیه: کی طرف کمزور نظر سے دیکھنا۔ صفت: مُطَغْمِش۔

طغا: طَغَا ۔ طُغُوًّا و طُغْوًّا و طُغْوانًا حد سے گزر جانا۔ البحرُ: سمندر کا جوش میں آنا ۔ السيلُ: سیلاب کا چڑھ آنا۔ طَغَّی هٗ: کو سرکشی پر اکسانا۔ أطْغَی هٗ: کو سرکشی پر اکسانا ۔ هٗ المالُ و نحوهُ: مال وغیرہ کا کسی کو سرکش بنا دینا۔ تَطاغَی الموجُ: لہر کا جوش مارنا۔ الطَغْوَة جمع طَغَوات: بلند جگہ۔ الطَغْوَی: طغا کا اسم۔ الطاغوت جمع طَواغٍ و طَواغِيت: ہر سرکش، گمراہ کرنے والا، شیطان، ہر باطل معبود۔ الطَواغِي و الطَواغِيت: بت خانے۔

○ طغا ۔ طغوا و طَغَى ۔ طَغْيًا و طَغِيَ ۔ طَغًا و طُغْيانًا: مناسب حدوں سے تجاوز کرنا، بڑھنا (سمندر کا) طوفانی یا طوفان خیز ہونا، ہنگامہ خیز ہونا، بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا (دریا کا) کناروں سے باہر آ جانا، دریا میں سیلاب آنا ۔ علی سے چھلکنا، کناروں سے باہر آنا، کو زیر آب کرنا، غرق کرنا، سیلاب میں مبتلا کرنا، پر بھر مار کر، بوچھاڑ کرنا۔ علی: کو زیر کرنا، پر قابو پانا، کو قابو میں لانا، کو گرفت میں لینا، مٹھی میں لینا، پر واقع ہونا، پڑنا، پر ظلم و تشدد کرنا، پر دہشت طاری کرنا، سے سختی کا سلوک کرنا۔ طَغَى ۔ علی: میں سب سے اہم، نمایاں یا سب پر فائق ہونا۔ میں رواج ہونا، عام ہونا، پر غلبہ یا تسلط کرنا، سے زیادہ اہم ہونا یا زیادہ بھاری یا وزنی ہونا، سے زیادہ وقیع ہونا۔ طُغوان: سیلاب، طوفان، بیل۔ طُغیان: سیلاب، طوفان، سیل، ظلم، جور و استبداد، خاتمہ۔ دہشت گردی ۔ طاغ جمع طُغاة ظالم حکمران، بے انصاف، ظالم، جابر، مستبد حاکم، مطلق العنان حاکم۔ طاغِيَة: بمعنی طاغ نیز غنڈا، بے حس، ظالم، جنگلی، بن مانس، گوریلا۔

طغی: طَغَا و طَغِيَ ۔ طَغْیًا و طُغْیانًا و طَغَیانًا بمعنی فعل طغا ('و' والا) ۔ الكافرُ: کافر کا کفر میں غلو کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں طَغاهُ الشيطانُ: شیطان نے اسے بھلائی کے راستہ سے دور کر دیا۔ الرجُلُ: ظلم و نافرمانی میں حد سے گزر جانا۔ الماءُ: پانی کا بلند ہونا۔ طَغَّی و أطْغَی فلانًا: کو سرکشی پر اکسانا، کو سرکش بنانا۔ الطَغْيَة: ایک بار کی سرکشی یا شرارت، سرکش گھوڑا وغیرہ، پہاڑ کی چوٹی، ہر بلند جگہ۔ الطاغي (فا) جمع طُغاة و طاغون: ظالم۔ الطاغِيَة: الطاغی کا مونث، جبار، متکبر، سرکش، بیوقوف، بجلی، رومی بادشاہوں کا لقب، غالبًا عربوں نے یہ نام غیر عربوں کا رکھا تھا۔

طف: ا۔ طَفَّ ۔ طَفًّا الشيءُ منه: کے قریب ہونا۔ طَفَّ المِكيالَ: پیمانہ کو تھوڑا سا کم بھرنا۔ به موضعَ كذا: کو دھکیل کر کسی جگہ کے قریب کرنا۔ أطَفَّ له: کو دھوکا دینے کا ارادہ کرنا کی کوشش کرنا۔ علیه: پر مشتمل ہونا۔ اِستَطَفَّتِ الحاجةُ: ضرورت کا پورا ہونا۔ الطَفّ جمع طُفوف: کنارہ، پہلو، ساحل گھر کا صحن، دامن کوہ۔ طَفافُ الشمسِ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا کہا جاتا ہے۔ أتانا عند طفاف الشمس: وہ ہمارے پاس سورج کے غروب ہونے کے وقت کے قریب آیا۔ الطافَّة: باغ کا گرداگرد، پہاڑوں اور میدان کے درمیان قطعہ زمین۔ الطفيف: ناکمل، ناقص، غیر اہم، بہت تھوڑا، ناقابل اعتناء۔

۲۔ طَفَّ ۔ طَفًّا الحائطَ: دیوار پر چڑھنا۔ هٗ برجله او بيده: کو پاؤں یا ہاتھ سے اٹھانا۔ أطَفَّ علیه: پر جھانکنا۔ أطَفَّ الكَيْلَ: پیمانہ بھرنا۔ عَلَیْهِ بحجرٍ: کو پتھر مارنے کے لئے اٹھانا۔ أطَفَّ لَه السيفَ: تلوار کی طرف جھکانا۔ اِستَطَفَّ علیه: کو اوپر سے جھانکنا۔ الطَفّ (مص) جمع طُفوف: اونچی زمین۔ ۔ و الطِفَف و الطَفاف و الطِفاف و الطُفافَة من الإناء: برتن کا کنارہ، پیانے سے فالتو یا بقیہ۔ إناءٌ طَفّان: کناروں تک یا اوپر تک بھرا ہوا برتن۔

۳۔ طَفَّفَ علی عِيالِه: بال بچوں پر بخل و کنجوسی کرنا۔ الطَفِيف: تھوڑا، حقیر، خسیس معمولی، گھٹیا۔

۴۔ طَفَّفَ الطائرُ: پرندہ کا بازو پھیلانا۔

۵۔ الطَفّ و الطَفَّاف من الخيل: چست و سبک اور تیز رفتار گھوڑا۔ الطَفاف و الطِفاف: رات کی تاریکی۔

۶۔ طَفطَفَ طَفطَفَةً: دشمنوں کے ہاتھوں میں ڈھیلا ہونا، جب کوئی شخص ایسے منصب پر فائز ہو جائے جس کا وہ مستحق نہ ہو تو عوام کہتے ہیں۔ هو يطفطف عليه۔ الطَفطَفَة (مص) جمع طَفاطِف و الطِفطِفَة: کمر، ڈھیلا اور متحرک گوشت۔ الطَفطاف: پہلو، ساحل، درخت کی تر و تازہ، نرم شاخیں۔

○ طَفَّفَ هٗ: کو ناقص یا ناکافی بنانا۔ علی: کے حق میں کنجوس ہونا، پر بہت تھوڑا خرچ کرنا کو تھوڑا دینا۔ طفيف: ناقص، کم، معمولی، غیراہم، معمولی، یونہی سا، بہت ہی کم، ناقابل اعتناء۔ تَطفِيف: کنجوسی کرنا، کنجوسی بخل، جزرسی، از حد کفایت شعاری۔

طفی: طَفِئَ ۔ طُفوءً ات النارُ: آگ کا بجھنا۔ ت عينُهُ: آنکھ کا بے نور ہونا۔ أطْفَأ النارَ: آگ بجھانا۔ کہا جاتا ہے: أطْفَأ الفتنةَ او الحربَ: اس نے فتنہ یا لڑائی کو فرو کر دیا۔ اِنطَفَأ اِنْتفأتِ النارُ: آگ بجھ جانا۔ الإطْفائي جمع اطفائيون: آگ بجھانے والا۔ الإطْفائِيَة: آگ بجھانے والا محکمہ۔ مُطْفِئُ الجَمْرِ: ایام عجوز کا چوتھا یا پانچواں دن۔ مُطْفِئُ الرَضْفِ: مصیبت۔ مُطْفِئَةُ الرضف چربی جو گرم پتھر پر پڑے تو پگھل جائے اور اس کی گرمی دور کر دے۔ المِطْفاة جمع مَطافِي: آگ بجھانے کا آلہ۔

○ أطْفَأ النورَ: روشنی بجھانا۔ العطشَ: پیاس بجھانا۔ الكِلْسَ: چونا بجھانا، چونا پانی میں بجھانا۔ أطفأ جَذْوَةَ يومِهِ و أحْرَقَ فَحْمَةَ ليلِه في العمل: دن رات، کام کرنا۔ اِنطَفَأ بمعنی طَفِئَ۔ طَفّايَة: آگ بجھانے کا آلہ۔ مِطْفاة جمع مطافي: آگ بجھانے کا سامان، آگ بجھانے والا آلہ، آگ بجھانے والا انجن Fire extinguisher ۔ Fire engine اطفاء: آگ بجھانا۔ جَهازُ إطفاء الحريق: آگ بجھانے کا سامان۔ رِجالُ الاطفاء: آگ بجھانے کا محکمہ، آگ بجھانے والے۔ فائر مین Fire men رجالُ المطافي: آگ بجھانے کا محکمہ، آگ بجھانے والے۔ Fire men عمليات الاطفاء: آگ بجھانے کی کارروائیاں۔ اطفائية: آگ بجھانے کا محکمہ۔ مُطْفَأ: بجھا ہوا، پھیکا، مدہم، بے رونق، کند، پھیکا، ہلکا، بے لطف، بے کیف، سپاٹ۔

طفح: ا۔ طَفَحَ ۔ طَفْحًا و طُفوحًا الاناءُ: برتن کا بھر کر کناروں سے بہنا۔ الاناءَ: برتن کو بھرنا (لازم و متعدی) ۔ السكرانُ: مخمور کا شراب سے پر ہونا۔ ت المرأةُ بالولد: عورت کا پورے دنوں کا بچہ جننا، کہا جاتا ہے۔ أطْفَحْ عنّي: میرے پاس سے چلے جاؤ۔ طَفَّحَ و أطْفَحَ الاناءَ: برتن کو اتنا بھرنا کہ کناروں سے بہنے لگے۔ اِطَّفَحَ القِدْرَ: ہانڈی کے جھاگ نکالنا۔ الطفاح: پر، بھرائی۔ الطُفاحَة: ہانڈی کے جھاگ۔ الطَفحان م طَفحَی: کناروں سے بہنے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والا۔ الطافحة: الطافح کا مونث۔ فرسٌ طَفّاحُ القوائم: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ المطفحة: کفگیر۔

۲۔ طَفِحَ ۔طَفْحًا و طُفُوحًا الرجلُ: غشی کھانا (عام زبان میں)

۳۔ الطفحان م طَفْحَانة: بیوقوف، ست (عام زبان میں) الطافحة: خشک۔

○ طفحَ ۔طَفْحًا و طُفُوحًا: کیساتھ کناروں سے بہنا۔ طَفَّحَ ہ: (برتن کو) کناروں تک بھرنا، لبالب بھرنا۔ أطْفَحَ بمعنی طَفَّحَ۔ طَفْح: از حد بہتات، وفور، بھرا ہونا یا بھرنا، جلد کی پھنسی، سرخ باد۔ طَفْحَة: جلد کی پھنسی، سرخ باد۔ طَفْحِي: پھوٹ نکلنے والا، سرخ بادکا۔ طُفُوح: از حد بہتات، وفور، بھرا ہونا، بھرنا۔ طُفاحة: جھاگ، کف۔ طَفْحان م طَفْحَى: کناروں سے بہتا ہوا، لب لب بھرا ہوا، لب لب۔ مِطفحة: کفگیر۔ طافِح: کناروں سے بہتا ہوا، لبالب، کناروں تک بھرا ہوا، اتنا بھرا ہوا کہ کناروں سے بہتا ہو۔

طفد: طَفَدَ ۔طَفْدًا المیتَ: میت کو دفن کرنا۔ الطَفْد و الطَفَد جمع أطْفاد: قبر۔

طفر: طَفَرَ ۔طَفْرًا و طُفُورًا: کودنا، پھاندنا۔ طَفَّرَ اللبنُ: دودھ کا بالائی والا ہونا۔ ـــ الفرسَ النَهْرَ: گھوڑے کو ندی کودانا۔ أطْفَرَ الفرسَ النهرَ: گھوڑے کو ندی کودانا۔ الطَفْرة: کود، پھاند ـــ عند العامة: بدن پر نکلنے والی پھنسیاں ـــ من اللبن: بالائی، ملائی۔ الطَفْران عند العامة: جس کے پاس مال نہ ہو، مفلس۔

○ طَفَرَت جَوانحُها: عورت کا سینہ مسرت آمیز اضطراب سے، زور سے اونچا نیچا ہوا۔ طَفْرة: کود، پھاند، اضطراری حرکت، جوش، تندی، تیزی، کامیاب قدم۔ طَفْرَةً: ایک جست میں۔ طَفْران: کنگال، محتاج مفلس۔ طَفَر: گھوڑے کا پٹھا۔

طفس: طَفِسَ ۔طَفَسًا و طَفَاسَةً: گندا ہونا۔ صفت طَفِس طَفَسَ۔ طُفُوسًا الرجلُ: مرجانا۔

طفق: طَفِقَ ۔طَفْقًا و طُفُوقًا یفعلُ کذا: کچھ کرنے لگنا۔ الموضعَ: جگہ پر رہنا۔

طَفَقَ ۔طَفْقًا و طُفُوقًا یفعلُ کذا: کچھ کرنے لگنا۔ ـــ بمراده: مراد میں کامیاب ہونا، اپنی مراد کو پالینا۔ أطْفَقَ ہُ بمراده: کو اسکی مراد میں کامیاب کرنا۔

○ طَفِقَ ۔طَفْقًا یفعل کذا: کچھ کرنا شروع کرنا، کچھ کرنے لگنا، اچانک کچھ کرنا۔

طفل: ۱۔ طَفُلَ ۔طُفُولَةً و طَفَالَةً: نرم و نازک اور پروردۂ ناز و نعمت ہونا۔ طَفَّلَ ہُ: سے نرمی کرنا۔ طَفَّلَ الراعی الابلَ: چرواہے کا نرمی سے اونٹوں کو ہانکنا تاکہ ان کے بچے ان سے آملیں۔ أطْفَلَت الأنثى: عورت کا چھوٹے بچے والی ہونا۔ تَطَفَّلَ: بچوں کی سی عادت اختیار کرنا۔ الطَفْل جمع طِفال و طُفُول م طَفْلَة: ہر نازک و نرم شے۔ الطِفل جمع أطْفال م طِفْلَة: ہر چیز کا چھوٹا کہا جاتا ہے۔ هو یسعی لی فی اطفال الحاجات: وہ میری چھوٹی موٹی ضرورتوں کے سلسلہ میں مشغول رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے: جاریةٌ طِفلٌ و طِفلَةٌ: چھوٹی لڑکی کبھی طفل واحد اور جمع کے معنی دیتا ہے کیونکہ وہ اسم جنس ہے ہر وحشی جانور کا بچہ۔ ریحٌ طَفِلٌ: نرم چلنے والی ہوا۔ الطَفَل (مص): بچپن (کی حالت)۔ الطُفُولِيَة و الطَفَالَة و الطُفُولة: بچپن۔ المُطْفِل جمع مَطافِل: بچہ والی (انسان یا جانور میں سے) کہا جاتا ہے: لَيْلَةٌ مُطْفِلٌ: سرد رات جو بچوں کی موت کا باعث ہو۔

۲۔ طَفَلَ ۔طُفُولاً: تاریکی میں داخل ہونا۔ ـــ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ طَفَّلَ اللیلُ: رات کا نزدیک آنا۔ ـــ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ أطْفَلَ: تاریکی میں داخل ہونا۔ ـت الشمسُ: سورج کا غروب کے وقت سرخ ہونا۔ الطِفْل: رات، غروب ہونے کے قریب سورج۔ الطَفَل: تاریکی، اندھیرا۔ طَفَلُ الغداةِ: طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد۔ العشیِّ: غروب آفتاب کے تھوڑی دیر پہلے۔

۳۔ طَفِلَ ۔طَفَلاً و طُفِّلَ النباتُ: مٹی لگنے سے پودے کا نہ بڑھنا۔

۴۔ طَفَّلَ الرجلُ: طفیلی ہونا۔ تَطَفَّلَ: طفیلی ہونا۔ الطُفَیْلی: بن بلائے دعوت میں آنے والا (ن ح) طفیلی پودا یا کیڑا Parasite (جو دوسرے پودوں یا کیڑوں پر گزارہ کرتے ہوں)

۵۔ طَفَّلَ الکلامَ: بات سوچنا۔ أطْفَلَ الکلامَ: بات سوچنا۔

۶۔ الطِفْل: حاجت، ضرورت، چنگاری، کہا جاتا ہے۔ تطایرت أطفالُ النار: چنگاریاں ہر طرف اڑیں۔ الطُفال و الطَفال: خشک گارا۔ الطَفِیل: تالاب میں بچا ہوا گدلا پانی۔

○ طَفَّلَ علی: کے سر پر زبردستی جاکر مسلط ہونا، کے سر پر سوار ہو جانا، کے معاملہ میں خواہ مخواہ دخل دینا، پر بوجھ بننا، طفیلی ہونا۔ علی مائدته: دوسرے کے خرچ پر زندگی بسر کرنا۔ تَطَفَّلَ علی [illegible] بن بلائے آنا، بے وقت آنا، خلل ڈالنا، کے سر پر سوار ہو، خواہ مخواہ دخل دینا۔ طِفل جمع اطفال: شیرخوار بچہ، ننھا منا بچہ، گود کا بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ طِفلة: بچی۔ طَفْل: نرم و نازک، کمہار کی چکنی مٹی۔ طِفْلِي: بچہ کا، بچوں کا، بچپن کا، بچوں کا سا، طفلانہ۔ طَفَل: ایام طفلی (عالم) شیر خوارگی (عالم) طفولیت، بچپن، بچپن کا مرحلہ۔ طَفْلة: کمہار کی چکنی مٹی۔ طُفال: چکنی مٹی، کمہار کی چکنی مٹی، نباتاتی کھاد والی زرخیز مٹی۔ طَفالة: شیر خوارگی، بچپن، بچپن کا مرحلہ، ابتدائی مرحلہ، شروعات، طلوع سحر، ابتدائی عرصہ۔ طُفُولة: شیر خوارگی، بچپن، ابتدائی بچپن، بچپن کا مرحلہ۔ طُفُولية: شیر خوارگی، بچپن، بچپن کا مرحلہ۔ طُفُولي: بچہ کا، بچپن کا یا شیر خوارگی کا یا کے متعلق، بچوں کا سا، طفلانہ۔ طُفَیْلي: ناخواندہ مہمان، مداخلت کرنے والا، سر پر سوار ہونے والا، زبردستی سر پر سوار ہونے والا، طفیلی، مفت خورہ، طفیلی پودا یا کیڑا، بے حد خوشامدی، چاپلوس، ٹوڈی۔ علم الطُفَیلیات: طفیلی پودوں یا کیڑوں کا علم۔ مُتَطَفِّل: طفیلیانہ، طفیلی، مفت خورہ، ناخواندہ مہمان۔

طفن: طَفَنَ ۔طَفْنًا: مرنا۔ ـــ ہ: کو قید کرنا۔ اطْفَأَنَّ المکانُ: جگہ کا قابل اطمینان ہونا۔ ـــ الرجلُ: اچھی عادت والا ہونا۔ اتطفاتین: جھوٹ، لغو، بیہودہ گفتگو، قید۔

طفا: ۱۔ طَفَا ۔طَفْوًا و طُفُوًّا: پانی کے اوپر تیرنا اور پانی میں نہ ڈوبنا۔ السمکُ الطافی: پانی میں مرنے اور اس پر تیرتی رہنے والی مچھلی۔ ـــ الظبیُ: ہرن کا تیز دوڑنا۔ ـــ فوق الفرس: گھوڑے پر کود کر سوار ہونا۔ الطُفَاوة: ہانڈی کا جھاگ وغیرہ (کہا جاتا ہے۔ اصبنا طفاوةً من الربیع: ہمیں موسم بہار کا کچھ حصہ ملا) سورج یا چاند کا ہالہ۔ الطُفْوَة: کمزور اور پتلا پودہ۔

۲۔ طَفَا ۔طَفْوًا و طُفُوًّا فلانٌ: مرنا۔ ـــ فی الارض: زمین میں داخل ہونا۔

۳۔ الطُفْیَة جمع طُفًی (ح): ایک زہریلا سانپ۔

○ طَفَا ۔طَفْوًا و طُفُوًّا: تیرنا، بہے چلے جانا، ظاہر ہونا، سطح پر آنا۔ طفا بہ الی السطح: کو سطح پر لانا۔ طُفاوة: کوئی تیرتی یا بہتی چیز، جہاز کا سمندر میں تیرتا ہوا مال، جہاز کے تیرتے ہوئے ٹکڑے، ہالہ (سورج یا چاند کے گرد) طافٍ: سطحی، اوپری (Super ficial) طافِیة: تیرتا ہوا برفانی تودہ (Floating ice berg)

طق: ۱۔ طَق: پتھر پر پتھر کے گرنے کی آواز۔

maarfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ طَقطَقَ طَقطَقَۃً الدوابُّ : جانوروں کا پاؤں سے آواز نکالنا۔

○ طَقَّ ۔طَقًّا: بھک کرنا، بھک سے اڑنا، تڑخنا، کڑکڑ کرنا، کھٹ کھٹ کرنا، پھڑ پھڑانا، پھٹنا، پھوٹنا، پھٹ کر اڑ جانا، دھماکے سے پھٹنا۔

طقس: الطَقْس جمع طُقُوس: طریقہ خصوصاً مذہبی طریقہ، رسم ـــ عند العامۃ: موسم، آب و ہوا (یونانی لفظ) الطَقسوس (ن): ایک قسم کا درخت۔

○ طَقَّسَ: عسائیوں کی دعاؤں کی کتاب میں لا کر رکھنا۔ تَطَقَّسَ: مذہبی رسوم ادا کرنا، مذہبی رسوم پر چلنا۔ طقوس: رسم، رسومات، مذہبی رسم، پادریوں کا ایک منصب۔ طَقْسی: عیسائیوں کی نماز کے متعلق۔ الطقسات: عیسائیوں کی نماز کی کتابیں۔ طَقْطَقَ: تڑخنا، تڑاقے سے نکلنا یا بند ہونا، کھڑ کھڑ کرنا، جھن جھن کرنا، کھڑ کھڑانا، چھک چھک کرنا، بھک کرنا، دھماکہ سے ٹوٹنا، چٹخنا، چڑ چڑانا، سرسرانا۔

○ طَقَّمَ ہ: (گھوڑے) کو جوتنا، لگام دینا۔ طَقْم جمع طُقُوم و طُقُومَۃ و أَطْقُم: بہت سی امدادی اشیاء، سلسلہ، سوٹ، جوڑا (کپڑوں کا) سیٹ (اوزاروں وغیرہ کا) گھوڑے کا ساز و یراق۔ طقم الاسنان: (مصنوعی) دانتوں کا چوکا یا سیٹ۔ طَاقِم بمعنی طَقْم نیز (جہاز کا) عملہ۔ طاقم الاسنان: (مصنوعی) دانتوں کا چوکا یا سیٹ (Denture)

طلّ: ۱۔ طَلَّ ۔طَلًّا الغریمَ: قرض خواہ کو ٹالنا۔ ہُ حقَّہ: کو اس کا حق بہت کم دینا یا حق مار لینا۔ وطُلَّ طَلًّا الدمُ: خون رائیگاں جانا، خون کا انتقام نہ لیا جانا۔ صفت طلیل و مَطلُول۔ أَطَلَّ علی حقی: میرے حق پر غالب آنا۔ الدمَ: خون بغیر قصاص کے چھوڑ دینا، کہا جاتا ہے۔ أَطَلَّ علی فلان بالاذی: کو مسلسل ایذا دینا۔ اُطِلَّ الدمُ: خون بغیر قصاص کے چھوڑا جانا صفت مُطَلّ الطُلاء: بے بدلہ خون۔

۲۔ طَلَّ ۔طَلًّا تِ السماءُ الارضَ: آسمان کا شبنم برسانا۔ الطَلّ (مص) جمع طِلال و طِلل: تھوڑی سی بارش، شبنم، نمی۔ الطَلَّۃ: اسم مرہ، شبنم کا تر کیا ہوا باغ۔ المَطلُول (مفع) من الاماکن: شبنم پڑنے والی جگہ۔ المُطَلِّل: کہر۔

۳۔ طَلَّ ۔طَلًّا ہُ بالدھن: کو تیل کی مالش کرنا، پر تیل لگانا۔ طَلَلُ السفینۃِ: کشتی کا پردہ۔

۴۔ طَلَّ ۔طَلًّا الابلَ: اونٹوں کو تیز ہانکنا۔

۵۔ طَلَّ ۔طَلالَۃً الشیءُ فلانًا: کو حیران کرنا، کو پسند آنا۔ الطَلّ: خوبصورت، قابل ستائش۔ الطَلَّۃ: الطَلّ بمعنی خوبصورت قابل ستائش کا مونث، دل پسند خوشبو، لذیذ شراب، بیوی، خوراک اور لباس میں کثرت۔ الطَلالَۃ (مص): اچھی حالت، خوبصورتی، شادمانی۔

۶۔ أَطَلَّ الزمانُ: زمانہ کا قرب ہونا۔ -- علیہ: کو اوپر سے جھانکنا۔ تَطَالَّ: دور کی چیز دیکھنے کے لئے گردن اونچی کرنا۔ کہا جاتا ہے: تطاللتُ لہَ: میں نے دور سے اسے دیکھنے کے لئے اپنی گردن اونچی کی۔ اِسْتَطَلَّ علیہ: کو اوپر سے دیکھنا۔ الفرسُ ذنَبَہ و بذنبہ: گھوڑے کا اپنی دم کھڑی کرنا۔ الطُلَّۃ جمع طُلَل: گردن۔ الطَلَل جمع أَطلال و طُلُول: اونچی جگہ، کھنڈرات، ہر چیز کا جسم، کہا جاتا ہے۔ اعجبنی طَلَلُہُ راقنی ھیکلُہُ: مجھے اس کا جسم اچھا لگا۔ من الدار: گھر کا چبوترہ۔ طَلَلُ الماء: پانی کی سطح، کہا جاتا ہے۔ مشی علی طللِ الماء: وہ پانی کی سطح پر چلا۔ الطَلالَۃ: ہر چیز کا جسم، کھنڈرات۔ المُطَلّ: بلند جگہ جہاں سے نیچے دیکھا جائے۔

۷۔ الطَلّ: بڑی عمر والا مرد (ح) سانپ۔ والطُلّ: دودھ، خون، اونٹنی کے دودھ کی قلت۔ الطِلّ (ح): سانپ۔ الطُلَّۃ جمع طُلَل: ایک مرتبہ دودھ پینے کی مقدار۔ الطَلِیل جمع طِلَّۃ و أَطِلَّۃ و طُلُل: پرانی چٹائی۔

۸۔ طَلْطَلَ ہُ: کو ہلانا۔ الطُلَطِل و الطُلَطِلۃ: مصیبت۔ الطُلاطِل: موت، سخت بیماری۔ الطُلاطِلۃ: مصیبت، موت، حلق کا کوا، عام لوگ اس کو طَنْطَلۃ: کہتے ہیں۔

○ طَلَّ ۔طَلًّا ہ: (زمین پر) خصوصاً آسمان کا، چھڑکاؤ کرنا، پر (آسمان سے) پھوار پڑنا، ترشح ہونا (آسمان کا) کو شبنم سے تر کرنا، (آسمان سے زمین) پر اوس پڑنا۔ طَلَّ ۔ُ: ظاہر ہونا، اٹھنا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا، نظر آنا، ظاہر ہونا، معلوم ہونا، لگنا۔ اَطَلَّ علی: کو اوپر سے دیکھنا، سے کہیں بلند ہونا، کسی اونچی جگہ سے کسی جگہ کا نظر آنا (کمرے کھڑکی وغیرہ کا) پر یا کی طرف کھلنا۔ اطلّ من: سے آہستہ آہستہ، ذرا سا نکلنا، سے باہر دیکھنا، ظاہر ہونا، نظر آنا۔ طَلَل جمع اطلال: کھنڈرات، آثار، باقیات۔ دم مطلول: خون جس کا انتقام نہ لیا گیا ہو۔

طلب: ۱۔ طَلَبَ ۔طَلَبًا الشیءَ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، طلب کرنا۔ الیہ: کی طرف راغب ہونا (مولدین کے نزدیک) طلبہ الی المبارزۃ: کو مقابلہ میں بلانا۔ بدم فلان فلانًا: کا سے انتقام لینے کا ارادہ کرنا۔ فلانۃً: سے منگنی کرنا، عام لوگ کہتے ہیں۔ طلبہا من ابیہا فطَلَّبَہ ایاہا: یعنی اس نے لڑکی کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا جو اس نے منظور کر لیا۔ طَلَّبَ الشیءَ: کو مہلت دے کر مانگنا۔ طالَبَ طِلابًا و مُطالَبَۃً ہُ: سے اپنا حق طلب کرنا۔ اسم الطَلَب اور الطِلْبَۃ۔ أَطْلَبَ ہُ: کو مانگنے کے لئے مجبور کرنا (کہا جاتا ہے۔ أطلبہ الفقرُ: یعنی تنگدستی نے اسے مانگنے پر مجبور کر دیا) کو وہ چیز دینا جو اس نے مانگی ہو (ضد)۔ تَطَلَّبَ و اِطَّلَبَ الشیءَ: کو بار بار تکلف سے مانگنا۔ الطِلب جمع أَطلاب و طِلَبۃ: مانگی ہوئی چیز، طلب کرنے والا۔ الطِلْبَۃ: مطالبہ کا اسم، مانگنے کی نوعیت۔ و الطَلِبَۃ: مانگی ہوئی چیز۔ الطَلْبَۃ: اسم مرۃ، ایک دفعہ کا مانگنا، مخصوص دعا جیسے: طلبۃ العذراء: حضرت مریم کی دعاء۔ الطالب (فا) جمع طَلَبَۃ و طُلّاب و طَلَب و طُلَّب: طالب علم شاگرد۔ الطُلُوب جمع طُلُب و الطَلِیب جمع طُلَباء و الطَلّاب: بہت طلب کرنے والا، بہت تلاش کرنے والا۔ الطَلِیبَۃ جمع طَلائِب: الطلیب کا مونث۔ المَطْلَب جمع مَطالِب: مطلب، مقصد، مسئلہ۔ فنکار کا موضوع۔ المَطْلُوب (مفع) جمع مَطالِیب: حق وغیرہ، جو طلب کیا جائے (ع ح) دیکھئے القرض۔

۲۔ طَلِبَ ۔طَلَبًا: دور ہونا۔ أَطْلَبَ الماءُ: پانی کا دور ہونا اور بغیر مانگے حاصل نہ ہونا۔ الطُلْبَۃ: دور کا سفر۔ بئر طُلُوب: گہرا کنواں۔ ماءٌ مُطْلِبٌ: دور کا پانی۔

○ طَلَبَ ۔طَلَبًا و مَطْلَبًا ہ / ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ -- ہ: کے لئے روانہ ہونا، کی راہ لینا ـــ ہ / ہ: کو ملنے یا دیکھنے جانا۔ -- ہ: کی استدعا کرنا، کی درخواست دینا۔ ہ من: کو سے لینے کی کوشش کرنا، سے کا مطالبہ کرنا۔ -- من ہ: سے کوئی چیز مانگنا، سے کسی چیز کا سوال کرنا۔ اِلی ہ: سے کا مطالبہ کرنا۔ -- ہ من: سے کچھ چاہنا۔ اِلی أن: سے چاہنا کہ وہ کچھ کرے۔ اِلی: سے تقاضا کرنا، اپیل کرنا، کو مدعو کرنا، سے درخواست کرنا، التماس کرنا، التجا کرنا، کی منت سماجت کرنا۔ -- ہ من: سے کچھ طلب کرنا، مانگنا۔ -- ہ: کی تلاش میں ہونا، کی جستجو کرنا۔ طالَبَ ہ ہ / ب: سے کچھ واپس طلب کرنا، سے کی واپسی کی درخواست کرنا۔ -- ہ ہ / ب: سے کا مطالبہ کرنا۔ ب: کا مطالبہ کرنا۔ تَطَلَّبَ ہ: کا مطالبہ کرنا، کو ضروری اور مطلوب بنانا۔ طَلَب: تلاش، جستجو، تعاقب، جمع طَلَبات: مطالبہ، دعوی، دعوت، درخواست، خواہش، تمنا، آرزو، التماس، التجا، حکم، آرڈر، کمشن، طلب، (تجارت میں)۔ تحت طلبہ: کے ہاتھ میں، کے سپرد، کی تحویل میں۔ عند

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الطلب اور لدی الطلب: مطالبہ پر، بذریعہ درخواست، اگر خواہش ہو، استدعا پر، درخواست پر۔ العرض و الطلب: رسد وطلب Supply and demand۔ طلب العلم: جستجوئے علم و معرفت، شوق مطالعہ۔ طلب عدم الثقة: عدم اعتماد کی قرارداد یا تحریک طَلْبَة: نماز، عیسائیوں کی سنگت والی دعا۔ طَلَبِیَة جمع طلبیات: آرڈر Order، کمشن (Commision) (تجارت) مُطْلَب: تلاش، جستجو، تعاقب جمع مَطالِب: مطالبہ، درخواست، خواہش، دعویٰ، مشکل، مسئلہ جمع مَطالِب: (حکومت کے مطالبات، ٹیکس taxes) طالِب جمع طُلّاب و طَلَبة: متلاشی، تعاقب کرنے والا، دعویدار، مدعی، درخواست دہندہ، عرضی دعویٰ پیش کنندہ، امیدوار، طالب علم، طالب العلم، شاگرد، بحری فوج کا ایک منصب جہاز کا نوجوان، زیر تربیت افسر Midshipman طُلّابُ الحاجات: درخواست گزار لوگ۔ طالبُ الزواج: شادی کی درخواست کرنے والا۔ مطلوب: (اشتہارات میں) ضرورت ہے Wanted، واجب الادا (Due نامعلوم (مقدار) مَطالِیب: خواہش، آرزو و تمنا۔ مطلوبات: ذمہ داریاں، قرضے۔ مطالیب: دعوے۔ مُتَطَلَّبات: ضروریات Requirements۔

طلث: طَلَثَ ـُ طُلُوثًا الماءُ: پانی کا بہنا۔ طَلَّثَ علی کذا: سے زیادہ ہونا۔ الطُّلَثَة: ضعیف العقل اور ضعیف البدن جاہل۔

طلح: ا۔ طَلَحَ ـَ طَلْحًا و طَلَاحَةً البعیرُ: اونٹ کا تھکا ماندہ ہونا، صفت طَلْح و طِلْح و طَلِیح۔ —— البعیرَ: اونٹ کو تھکانا۔ طَلِحَ ـَ طَلَحًا: خالی پیٹ ہونا، صفت طَلِیح و طَلْح و طِلْح —— البعیرَ: اونٹ کو تھکانا۔ طَلِحَ: خالی پیٹ ہونا۔ صفت طَلِیحٌ و طَلُحٌ و طِلْحٌ۔ طَلَّحَ البعیرَ: اونٹ کا تھکنا۔ أَطْلَحَ البعیرَ: اونٹ کو تھکانا۔ الطِلْح جمع أَطْلاح و طِلاح تھکا ہوا، لاغر کہا جاتا ہے: بعیرٌ طِلْحٌ و ناقةٌ طِلْحٌ: لاغر اونٹ اور لاغر اونٹنی۔ ناقةٌ طالِحٌ و ابل طُلَّحٌ تھکی ہوئی اونٹنی اور تھکے ہوئے اونٹ۔ ابل طِلاحٌ سفر سے تھکے ہوئے اونٹ۔ الطَلِیح تھکا ہوا لاغر (کہا جاتا ہے: بعیرٌ طَلْحٌ و ناقةٌ طَلِیح و طلیحة جمع طَلائِح و طَلْحَی: لاغر اونٹ اور لاغر اونٹنی۔)

۲۔ طَلَحَ ـُ طَلاحًا: خراب ہونا، فاسد ہونا۔ الطَّالِح (فا) جمع طَالِحُون و طُلَّح شریر، فسادی، بدکار۔

۳۔ طَلِحَ ـَ طَلَحَاتِ الابلُ: ببول کھانے سے اونٹوں کے پیٹ خراب ہوجانا۔ الطَّلْح (واحد طَلْحة (ن) ببول کا درخت، کیلا۔ مکانٌ طَلِحٌ م طَلِحَة: وہ جگہ جہاں ببول کے درخت بکثرت ہوں۔ الطِلاح (ن): کیکر کا درخت۔

۴۔ طَلَّحَ علی فلان: سے اصرار کرنا، پر زور دینا۔

۵۔ الطَلْح: (واحد طَلَّحة) کھجور کا گابھا، شگوفہ۔ الطِلح (ح): چیچڑی۔ الطلح نعمت، کہا جاتا ہے۔ هو فی طلح وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے۔ الطَلیح (ح): چیچڑی، کچڑ۔ الطُلْحِیَّة جمع طَلاحِیّ: کاغذ کا ایک ورق۔ عام لوگ طرحیۃ کہتے ہیں (آرامی زبان کا لفظ) المُطَّلِح فی المال: ظالم۔ فی الکلام: بدگو، مفتری۔

٭ طَلَحَ ـُ طَلاحًا: برا ہونا یا ہوجانا، بد ہونا یا ہوجانا، بد اعمال ہونا یا ہوجانا، آوارہ ہونا یا ہوجانا، فاسق، فاجر اور بدکار ہونا یا ہوجانا۔ طَلْح: اسم جنس، واحد طلحة: جمع طُلُوح: ببول، کیکر، کیلے کا درخت، کیلا۔ طَلْحِیَة: جمع طَلاحِی: کاغذ کا ایک ورق Sheet of paper طَلیحة: رِم Ream of paper (جو صحیح تو 480 لیکن عموماً 500 کاغذ کے ورقوں پر مشتمل ہوتا ہے)۔ طَالِح: برا، بد، بداعمال، آوارہ، فاسق، فاجر، بدکار، بہت برا۔

طلخ: ا۔ طَلَخَ ـُ طَلْخًا الشیءَ: کو سیاہ کرنا —— الکتابةَ: تحریر خراب کردینا —— فلانا بالقذر: کو گندا کردینا، پر دھبا ڈالنا۔ الطُّلْخ: گندہ پانی، خراب پانی۔

۲۔ إِطْلَخَّ الدمعُ: آنسو بہنا، بکھرنا۔

۳۔ الطِّلْخاء: بیوقوف عورت۔

۴۔ اِطْلَخَمَّ الرجلُ: تکبر کرنا۔ أُمورٌ مُطْلَخِمَّات: سخت امور۔

طلس: ا۔ طَلَسَ ـِ طَلْسًا البصرُ: بینائی جاتی رہنا۔ الکتابةَ: تحریر مٹانا، عوام کہتے ہیں۔ طلسه بالدهان و نحوه: کو پینٹ سے ڈھکنا یا پر وارنش کرنا۔ (سریانی لفظ) أُطْلِسَ به فی السجن: جیل میں ڈالا جانا۔ طَلَّسَ الکتابةَ: تحریر مٹانا۔ تَطَلَّسَ الکتابُ: خط کا مٹا ہوا ہونا۔ اِنْطَلَسَ الامرُ: بات یا معاملہ کا چھپنا۔ اِطْلَنْسَی اِطْلِنْساءً العَرَقُ: پسینہ کا تمام بدن پر بہنا۔ الطِلْسُ جمع أَطْلاس: محوشدہ تحریر۔ الطِّلاسَة: تختہ سیاہ پر لکھی ہوئی تحریر مٹانے کا کپڑا۔ الطَّلِیس: نابینا، اندھا۔

۲۔ طَلِسَ ـَ طَلَسًا و طَلُسَ ـُ طُلْسَةً: خاکستری رنگ کا مائل بہ سیاہی ہونا، صفت أَطْلَس جمع طُلْس

الطَّلَس: کالی چادر۔ الطِّلْس جمع أَطلاس: میلا کپڑا۔ الطُّلْسَة (مص) جمع طُلَس: سیاہی مائل خاکستری رنگ، پتلا، بادل، ہلکا بادل۔ الأَطْلَس: بے بال، سیاہی مائل خاکستری رنگ کا بھیڑیا، پرانا کپڑا، میلا، چور۔

۳۔ تَطَلَّسَ و تَطَیْلَسَ الرجلُ: طیلسان پہننا۔ الطَیْلَس جمع طَیالِس و الطَیْلُسان و الطَیْلِسان و الطِیلِسان جمع طَیالِس و طَیالِسَة: سبز چادر جسے علماء مشائخ پہنتے ہیں۔ الأَطْلَس: ریشمی کپڑا۔

۴۔ طَلْسَمَ عن القتال: لڑائی سے، پیچھے ہٹنا —— الرجلُ: سر جھکانا، منہ بگاڑنا —— الساحرُ: جادوگر کا جادو کی لکیریں کھینچنا، منتر لکھنا۔ الطِلَّسْم جمع طَلاسِم و الطِلَّسْم جمع طِلَّسْمات: جادوگر کی لکیریں یا تحریر جس سے وہ موذی اثرات دور کرنے کا دعویٰ کرتا ہے (یونانی لفظ)۔

٭ طَلَسَ ـِ طَلْسًا ھ: کو مٹانا، محو کرنا، کا نام و نشان مٹانا (خصوصاً تحریر مٹانا) طِلْس: مٹایا ہوا، محو کیا ہوا، جو پڑھا نہ جا سکے۔ أَطْلَس: ساٹن (Satin) جمع أَطالِس: اٹلس (Atlas) (جغرافیائی نقشوں کی جلد) طَلْسانه: منڈیر Coping طَیْلَسان جمع طَیالِسَة: چادر۔

طلع: ا۔ طَلَعَ ـُ طُلُوعًا و مَطْلَعًا و مَطْلِعًا الکوکبُ و نحوه: ستارہ وغیرہ کا طلوع ہونا۔ ـَ و طَلِعَ ـَ طُلُوعًا و طَلَّعَ النخلُ: درخت خرما کا پھوٹنا۔ أَطْلَعَ الکوکبُ: ستارہ کا طلوع ہونا، نمودار ہونا —— الفجرَ: فجر کے طلوع کو دیکھنا —— النباتُ: نباتات کا اگنا۔ النخلُ: درخت خرما کا شگوفہ نکالنا۔ الشجرُ: درخت کا پتے لانا، درخت کے پتے اگنا۔ —— ت النخلةُ: درخت خرما کا دراز ہونا —— الرجلُ: قے کرنا۔ تَطَلَّعَهُ: کو دیکھنا۔ اِطَّلَعَ الفجرَ: فجر کے طلوع ہونے کو دیکھنا۔ اِسْتَطْلَعَهُ: کے ظاہر ہونے کی خواہش کرنا۔ الطَلْع مِن النخل (ز): کھجور کا گابھا، خوشہ۔ غبارُ الطَلْع: زرگل (Potten) الطَلْعَة: (اسم مرة) دیدار، چہرہ۔ امرأةٌ طُلَعَةٌ: متجسس عورت کہا جاتا ہے۔ نفسٌ طُلَعَةٌ: اپنی محبت کی طرف بہت زیادہ مائل نفس۔ الطُلَعاء و الطولَع: قے۔ الطَلِیعَة من الجیش جمع طَلائِع: مقدمة الجیش۔ طالِع (فا): ہلال، پہلی رات کا چاند، صبح کاذب۔ جمع طَوالِع: زائچہ، جنم پتری۔ الطُلُوع بمعنی طالِع۔ الطُلُوع جمع طُلُوعات: پھوڑا (عام زبان میں) المَطْلَع (مص) جمع مَطالِع: ستاروں کے نکلنے کی جگہ، شعر کی ایک قسم

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

"زجل" کاٹکڑا جو مُعنّی کہلاتا ہے۔ موسیقی کا پہلا حصہ۔ مـطـلـعُ الـقصيدة: قصیدہ کا پہلا بیت۔ الـمَـطْلِع (مص) جمع مَطالِع (فلك): ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ۔

۲۔ طَلَعَ ـُ و طَلِعَ ـَ طُـلُوعًا الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ طَلَعَ الكيلَ: پیمانہ کو بھرنا۔ أَطْلَعَ الرامي: تیرانداز کا تیر نشانہ کے اوپر سے گزر جانا۔ عـلـى الشيء: کو جھانکنا۔ تَطَلَّعَ المكيالُ: پیمانہ کا بھرنا۔ ـ الماء من الانـاءِ: پانی کا برتن کے کناروں سے چھلکنا۔ ـــــ الـرجُلَ: کو پالینا، اور اس پر غالب آنا۔ الـطَـلْـع: مقدار، آپ کہتے ہیں۔ الـجيش طلعُ الفٍ: لشکر کی مقدار ایک ہزار ہے۔ والـطِـلـع: بلند جگہ۔ الـطِلاع من الانـاء جمع طُـلُع: برتن کی لبالب پُڑی۔ طِلاع الشيء: چیز کی مقدار کہا جاتا ہے: هذا طِلاعُ هذا: یہ اسکی مقدار ہے یہ اس جتنی ہے۔ عيـنٌ طِـلاعٌ: آنسوؤں سے بھری آنکھ۔ قـدحٌ طِـلاع: بھرا ہوا پیالہ۔ الـطلاّع: طالع کا اسم مبالغہ کہا جاتا ہے۔ هـو طَلاَّعُ الثـنـايـا والانْجُدِ: وہ بڑے بڑے امور کا قصد کرنے والا ہے یا وہ کاموں کا تجربہ کار ہے اور ان کو بحسن وخوبی سرانجام دیتا ہے۔ الـمَطْلَع و المَطْلِع جمع مَطالِع: سیڑھی، دیکھ بھال کرنے کی جگہ۔ المُطَّلِع (فا): قوی غالب آنے والا، بلند مرتبہ۔

۳۔ طَلَعَ ـُ و طَلِعَ ـَ طُـلُـوعًا على الامر: امر کو جاننا، سے آگاہ ہونا۔ طَـالَـع مُـطَالَعَةً و طلاعًا ہُ: غور وفکر سے پُر مطلع ہونا۔ الكتابَ: کتاب پڑھنا۔ ـ ہُ بالامر: کو معاملہ پیش کرنا، کہا جاتا ہے۔ طـالِعْني كلَّ وقت بـكُـتُـبك: ہر وقت اپنی کتابیں مجھے پیش کرتے رہو۔ أَطْـلَـعَ ہُ طِلْعَ امره: کو حقیقت حال سے واقف کرنا۔ ـــــ ہ عَلى سِـرِّہ: کو اپنے بھید سے واقف کرنا۔ تَطَلَّعَ ہُ: کو جان لینا۔ اِطَّـلَعَ الامرَ و عليه: معاملہ کو جاننا، سے آگاہ ہونا۔ طِـلْـعَ العدّو: دشمن کے پوشیدہ حال سے واقف ہونا۔ اسْـتَـطْـلَـعَ ہُ: سے حقیقت امر دریافت کرنا۔ رایَ فـلانٍ واسـتَـطْـلَـعَ ہُ رَأْيَـهُ: کی رائے دریافت کرنا۔ الـطِّـلْـع: اِطَّـلَـعَ کا اسم کہا جاتا ہے۔ اِطَّـلـع طِلْعَ العدو: دشمن کی اصل حالت سے واقفیت حاصل کر۔ الطليعة من الجيش جمع طَلائِع (ا ع): ہراول دستہ جسے لشکر سے آگے دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ (واحد جمع دونوں کے لئے) مَطْلَعُ الامر: کسی کام کے حصول کا ذریعہ اور طریقہ۔

۴۔ طَلَعَ ـُ طُـلُـوعـًا و مَـطْلَعًا و مَطْلِعًا عليهم: کی طرف متوجہ ہونا، آنا۔ عنهم: سے دور ہونا، اور غائب ہونا۔ ـ ـُ و طَلِعَ ـَ طُـلُـوعًا البلادَ: کسی ملک کا قصد کرنا۔ المكانَ: کسی جگہ پہنچنا۔ ـ من البلاد: ملک سے نکلنا۔ أَطْـلَـعَ اليه معروفًا: سے اچھا سلوک کرنا، سے مہربانی کرنا، پر نوازش کرنا۔ على فلان: کے پاس اچانک آنا۔ اِطَّـلَـعَ عـلـيـنـا: وہ ہمارے پاس اچانک آیا۔ الـطَلْـع والـطِـلْـع: گوشہ، کنارہ۔ الـمُـطَّـلَـع (مفع): آنے کی جگہ، جانے کی جگہ، اونچی جگہ۔

۵۔ الطِلْع (ح): سانپ۔

۞ طَـلَـعَ ـُ طُـلُـوعًـا و مَطْلَعًا: (خصوصاً اجرام سماویہ کا) طلوع ہونا، چڑھنا، نکلنا، نظر آنا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، دکھائی دینا (دانت کا) نکلنا (پودے کا) اگنا، کی کونپل پھوٹنا۔ مـن: سے باہر جانا، سے نکلنا، سے باہر آنا، سے نمودار ہونا۔ عـلـى: پر اچانک آجانا، کو جالینا۔ عـلـيـه ب: کے پاس کچھ لے جانا یا لانا۔ طَـلَـعَ ـُ طُلُوعًا و طَلِعَ ـَ ہ: پر چڑھنا، کے اوپر جانا، کی چوٹی پر جانا (موٹر، ٹرین وغیرہ) میں سوار ہونا، میں سفر کرنا۔ طَـالَـعَ ہ: کا مطالعہ کرنا، کو پڑھنا، کو بغور پڑھنا، کی طرف نظر کرنا، دیکھنا، کا معائنہ کرنا، پر نظر ڈالنا، پر غور کرنا۔ ـ ہ ب: کو سے آگاہ کرنا، مطلع کرنا، کو کی اطلاع دینا، پر کچھ واضح کرنا، سے کی وضاحت کرنا، سے کی توضیح کرنا، کی تشریح کرنا، توجیہ کرنا، کو کچھ تفصیل سے سمجھانا، یا کے سامنے نیا نظریہ پیش کرنا، پر کچھ افشا کرنا، ظاہر کرنا، کوئی بصیرت دینا۔ ـــــ ہ: پر سورج کا چمکنا۔ أَطْلَعَ: (دانت) نکلنا، (پودا کا) نکلنا، (پودے کی) کونپل پھوٹنا۔ ـ ہ عـلـى: کو سے آگاہ کرنا۔ ـ ہ عـلـى / مـن: کو کی یا کے بارے میں اطلاع دینا۔ ہ على / من: کو سے متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، کو کی اطلاع دینا۔ ہ على: کو کے متعلق بتانا۔ ہ على: سے کی توضیح کرنا، پر کچھ واضح کرنا، کو کی طرف توجہ دلانا، پر کچھ افشا کرنا، پر کا انکشاف کرنا، کو کچھ دکھانا، پر کچھ ظاہر کرنا، کو کی بصیرت دینا۔ تَـطَـلَّـعَ اِلى: پر نگاہ رکھنا، کا انتظار کرنا، کا منتظر ہونا، پر تلا ہونا، کی طرف دیکھنا، بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ ــ في / ب: کو توجہ سے دیکھنا، کو گھورنا۔ اطَّلَعَ: دیکھنا۔ على: کو دیکھنا، کا مطالعہ کرنا، کو پڑھنا، بغور پڑھنا، سے آگاہ ہونا، مطلع ہونا، کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کا معائنہ کرنا، جائزہ لینا، کی تحقیقات کرنا، کے بارے میں اچھی طرح واقف ہونا، کے متعلق خاص الخاص اطلاعات رکھنا، سے خفیہ طور پر آگاہ ہونا، کو معلوم کرنا، دریافت کرنا، کا پتہ لگانا۔ اِسْـتَـطْـلَـعَ ہ: کو دریافت کرنے، کا گہرا مطالعہ کرنے یا کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کرنا، کے متعلق پوچھنا، دریافت کرنا۔ ہ: میں اشتیاق یا تجسس ابھارنا۔ استـطـلـع رأيَهُ: سے مشورہ کرنا، کی رائے یا مشورہ دریافت کرنا۔ استـطلع خبَرہ: کے بارے میں معلومات تلاش کرنا۔ طَـلْـعَة: شکل، صورت، ظاہری شکل، وضع وقطع، خارجی مظہر، چہرہ، بشرہ، لباس، وضع طرز لباس۔ طُـلَعَة: متجسس، مشتاق، جاننے کا شائق۔ طَلاَّع: سخت کوشش کرنے والا، آرزومند، متمنی۔ طلاّعُ الثنايا والانجد: قابل، لائق، کارگزار، توانا، طاقت ور، باہمت، مستعد، سرگرم، چاق چوبند، جاندار۔ طلاّعٌ الى التعرف: جاننے کا شائق، خبروں کا شوقین۔ طَـلِـيـعَة: اگلی صف، اولین صف، محافظ دستہ، جمع طَـلائِـع: نقیب، پیش رو، عجیب واقعہ، پہلی علامت، نشانی، دلیل، علامت، شروعات۔ فـي الـطليعه: سامنے، سرفہرست۔ مَـطْلَع جمع مَطالِع: طلوع، اجرام سماویہ کے طلوع کا وقت، چڑھنے کی جگہ، نقطہ آغاز، روانگی کا وقت، فجر، اچانک آغاز، شروع، آغاز، ابتداء، پیش لفظ، تمہید، دیباچہ، مقدمہ، کسی نظم کی ابتدائی ابیات، اپنا نقطہ نگاہ، سیڑھی۔ قـاعة الـمطالعة: مطالعہ کا کمرہ۔ حُـبُّ الاستطلاع: تجسس۔ حُبًّـا في الاستطلاع: تجسس کی خاطر۔ طـائـرة الاستطلاع: دیکھ بھال کا طیارہ۔ حسنُ الـطَـالِـع: خوش نصیبی، مبارک ستارہ، خوش بختی۔ لـحسنِ طـالعي: میری خوش قسمتی سے، خوش نصیبی سے۔ سَيِّئُ الـطـالع: بدنصیب، بدبخت، بدقسمت۔ سَاءَ طالعه: اس کے برے دن آگئے۔

طلف: ا۔ طَـلَّفَ علیـه: پر زیادہ کرنا، میں اضافہ کرنا۔ الطَلَفِ: زائد چیز۔

۲۔ أَطْلَفَ ہُ كذا: کو کوئی چیز بخشا، دینا۔ الطَلَف: بخشش، آسان چیز۔ الـطَلِيف: لی ہوئی، گرفت شدہ، اقتباس شدہ، کھینچا ہوا۔

۳۔ أَطْـلَفَ الـدمَ: خون کو رائیگاں کرنا۔ الـطَـلَـف و الطَلُف: رائیگاں کہا جاتا ہے۔ ذهـب دمـه طَلَفًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ الطلِيف: رائیگاں، باطل۔

طلق: ا۔ طَلَقَ ـِ طَلْقًا الشيءَ فلانًا: کو کوئی چیز دینا۔ و أَطْـلَقَ يدَه بخير: بھلائی کا ہاتھ کھولنا۔ رجـلٌ طَلْقُ اليدين: سخی آدمی۔

۲۔ طَـلَقَ ـُ طَلاقًـا ت الـمرأةُ من زوجها: عورت کا اپنے شوہر سے جدا ہونا اور اس کو چھوڑ دینا۔ صفت طَالِق جمع طُـلَّق و طالِقة جمع طَوالِق۔ ـ ت الناقةُ: اونٹنی کا پائے بند سے کھلنا۔ طَـلِقَ ـَ طَـلَـقًا: دور ہونا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

طَلَّقَ قومَہٗ:قوم کو چھوڑ دینا اور جدا ہونا۔ المرأۃ زوجھا:خاوند کا اپنی عورت کو طلاق دینا،قید نکاح سے آزاد کرنا۔ أطلَقَ المرأۃ عورت کو طلاق دینا۔ المواشی: مویشی کو کھلا چھوڑنا۔ الاسیر قیدی کو رہا کرنا۔ فی کلامہ:کلام کو تمام لانا مقید نہ کرنا،کہا جاتا ہے۔ أطلق حلہ جلدی کرنا۔ اطلق الدواء بطنہٗ:دوا دست لائی۔ أطلَقَ خیلہ فی الحلبۃ: اس نے دوڑنے کے راستہ میں اپنے گھوڑوں کو دوڑایا۔ تَطَلَّقَ ت الخیلُ: گھوڑوں کا آزادی سے منزل مقصود کی طرف جانا۔ انطَلَقَ:جانا۔ انْطُلِقَ بہ:کو لے جایا جانا۔ اِستَطلَقَ البطنُ:(طب)دستوں کا آنا۔ الظبیُ:ہرن کا تیزی سے دوڑنا۔ الامرَ: کی جلدی کرنا۔ الطَّلَق ج أطلاق آنتیں۔ أمعاء(ح)،ہرن۔ والطُّلُق و الطَّلْق والطَلِق والطلیق آزاد،غیر مقید کہا جاتا ہے: حُبِسَ طَلَقًا و طُلُقًا:وہ بغیر ہتھکڑی کے قید کیا گیا۔ فرسٌ طلقُ الید گھوڑا جس کے پاؤں پر سفیدی نہ ہو۔ الطِلق:غیر مقید،آزاد،حلال۔ الطَلَق (مص) ج أطلاق:گھوڑے کی ایک دوڑ۔ الاطلاق (مص):کہا جاتا ہے: علی الاِطلاق یعنی عام طریقہ پر بلا استثناء الطلاق والمِطلاق والمِطلیق: بہت طلاقیں دینے والا۔ المُطلَقُ:آزاد،غیر مقید۔ من الخیل وہ گھوڑا جس کے ایک پاؤں میں سفیدی نہ ہو،کہا جاتا ہے: مُطلَقًا:یعنی عام طریقہ پر بلا استثناء۔

۳۔ طَلُقَ ـُ طُلُوقًا و طُلُوقَۃَ اللسانُ زبان کا فصیح ہونا، خوش بیان ہونا۔ انطَلَقَ لسانُہٗ زبان کا رواں ہونا۔ طَلْقٌ و طِلقُ اللسان فصیح،زبان کی روانی والا،کہا جاتا ہے: لسانُہٗ طُلُق و طَلِقٌ و طَلیق:اس کی زبان فصیح اور روانی والی ہے۔

۴۔ طَلُقَ ـُ طُلُوقَۃً و طَلاقَۃً الرجلُ ہنس مکھ ہونا،خندہ پیشانی والا ہونا۔ تَطَلَّقَ وجھُہٗ خندہ پیشانی والا ہونا۔ انطلق وجھُہٗ کشادہ رو ہونا۔ ۔۔۔ت نفسُہٗ للأمر کا کیلئے شرح صدر ہونا۔ اِطَّلَقَ:خندہ رو ہونا، ہشاش بشاش ہونا۔ رجلٌ طلقُ الوجہ ہنس مکھ آدمی۔ یومٌ طَلْقٌ:وہ دن جس میں نہ گرمی ہو نہ سردی۔ رجُل طِلقٌ و طُلُقٌ و طَلِقٌ و طَلیقُ الوجہ کشادہ رو آدمی،ہنس مکھ آدمی۔

۵۔ طُلِقَ طَلْقًا ت المرأۃ عورت کو دردِ زہ ہونا۔صفت مَطلُوقۃ۔ الطَّلْق (مص) ج أطلاق دردِ زہ۔

۶۔ طَلَّقَ و أطلَقَ النخلۃ درخت خرما میں گابھا دینا،قلم لگانا۔

۷۔ الطِلق:حصہ،کھال کا بنا ہوا بند۔ والطَلْق ابرک۔ الطَلَق ج أطلاق:مضبوطی سے بنی ہوئی رسی،کھال کا بنایا ہوا بند،کہا جاتا ہے: اصبت من مالہ طَلقًا: مجھے اس کے مال سے ایک حصہ ملا۔ الطُلَقاء:وہ لوگ جو اسلام میں مجبوراً داخل ہوئے۔ یا وہ لوگ جن کو فتح مکہ کے دن اسلام قبول کئے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔لفظی معنی صرف وہ لوگ جن کو آزاد کیا گیا ہو۔ المُطلَق (مو) انگلی جمائے بغیر تار پر ضرب لگانا(موسیقی)۔

○ طَلَّقَ علی:(قاضی کا)عورت کے خلاف طلاق کا فیصلہ دینا۔ طلّقت نفسَھا:عورت کا طلاق لینا۔ طُلِّقَت علیہ:(عدالتی فیصلہ کے ذریعہ)عورت کو اپنے خاوند سے طلاق ملنا۔ أطلَقَ ہ علی:(آتشیں اسلحہ)پر پھینکنا،چھوڑنا،داغنا۔ ۔۔ ہ علی:پر کا فائر کرنا۔ أطلق ہ ہ:کو بھیجنا۔ ۔۔ ہ:(آواز)نکالنا۔ اطلق زوجتہ:اپنی بیوی کو طلاق دینا۔ ۔۔ ہ:کو رائج کرنا، ترویج دینا،عمومی رواج دینا،عام کرنا۔ ہ علی:کو پر لاگو کرنا،منطبق کرنا،چسپاں کرنا۔ اطلق علیہ اسم:کا ۔۔۔۔ نام رکھنا،کو کے نام سے پکارنا۔ یُطلَق علی:یہ کے لئے مطلق قانونی طور پر جائز ہے یا معقول ہے،یہ پر منطبق ہوتا ہے۔ أطلق الحبل علی الغارب:کو کھلی چھٹی دینا،پر کوئی قیود عائد نہ کرنا۔ اطلق حربًا من عقالھا جنگ شروع کرنا۔ أطلَقَ الدَواءُ بطنَہ: دواء نے اسکی قبض کھول دی۔ اطلق الرصاص علی پر گولی چلانا،پر فائر کرنا۔ اطلق رجلیہ اِلی الریح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جانا۔ اطلق ساقیہ للریح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جانا۔ اطلق الارادۃ ل فی:کو کسی معاملہ میں کھلی چھٹی دینا۔ اطلق سبیلہ:کو رہا کر دینا،آزاد کر دینا،کو جانے دینا۔ اطلق السبیل لِعَبَرَتِہ کھل کر آنسو بہانا۔ اطلق سَراحَہٗ:کو آزاد کرنا،چھوڑ دینا،رہا کرنا۔ اطلق العنان لہ:کو کھلی چھٹی دینا،کا اظہار کرنا۔ أطلَقَ لِحیَتَہٗ:داڑھی بڑھانا،رکھنا۔ اطلق لسانہ فیہ اطلاقا شنیعا:کی چغلی کھانا،کے بارے میں ہتک آمیز باتیں کرنا۔ اطلق ألسِنَتَھُم ب:کو پر برانگیختہ کرنا۔ اَطلق النفسَ علی سَجِیَّتِھا اپنے وجدان کو کھلی چھٹی دینا۔ اطلق النارَ علی:پر فائر(تفنگ)کرنا۔ اطلق النارَ فی:کو آگ لگانا۔ أطلق یدہ ب:کے ساتھ فراخدل ہونا۔ اطلق یدہ فی(ل)کو میں یا کرنے کے لئے کھلی چھٹی دینا،کو کے لئے غیر محدود اختیار دینا۔ اطلقوا ایدیھم فی البلاد انہوں نے ملک سے جابرانہ سلوک کیا،ملک کے ساتھ من مانی کی۔

یجری:وہ جلدی میں روانہ ہوا۔ انطلق مُسرِعًا:وہ جلدی سے چلا گیا تیزی سے گیا۔ انطلق لسانُہٗ علی:کے خلاف باتیں کرنا۔ انطلق وجھُہٗ:اس کا چہرہ روشن ہو گیا،وہ خوش باش ہو گیا۔ استطلق بطنُہ:اس کی قبض کھل گئی۔ سریع الطَلَق:تیز فائر کرنے والی بندوق،توپ وغیرہ۔ طَلْقَۃ ج طَلَقات: طلاق۔ طلقۃ بالثلاثۃ:طلاق بائن۔ طَلْقَۃ ج طَلَقات چھرہ،فائر۔ طلقۃ ناریۃ:فائر،طلاق: طلاق۔ طلاق بالثلاثۃ اطلاق بائن طلاق رجعی:قابل تنسیخ طلاق،کتاب الطلاق،طلاق نامہ۔ حَلَفَ با الطلاق:ہر مقدس چیز کی قسم کھانا۔ طَلُوقۃ ج طَلائِق:اسپ نر نسل کشی والا گھوڑا،بیج کا گھوڑا۔ نقطۃ الانطلاق:روانگی کی جگہ،نقطۂ آغاز۔ طالِق مطلقہ(عورت) ھی طالِقٌ ثلاثًا:وہ تین طلاقی ہے، اسکو بائن طلاق ہو چکی ہے۔ الدول ذات الحکم المطلق:آمریت پسند ممالک۔ مُطلَق اسراح: آزاد،رہا شدہ۔

طلم:۱۔ طَلَمَ ـُ طَلْمًا و طَلَّمَ الخبزۃ:روٹی کو ہاتھ سے برابر کرنا۔ طَلَّمَ الخبزۃ:روٹی کو ہاتھ سے برابر کرنا۔ العرَق عن جبینہ:پیشانی سے پسینہ پونچھنا۔ الطُلَم:روٹی چوڑی کرنے کا تختہ،چکوٹی۔ الطُلْمۃ ج طُلَم:روٹی جسے عام لوگ طلمیۃ اور طلموسہ کہتے ہیں(سریانی لفظ)المِطلَمۃ: بیلن عوام اسے شوبک کہتے ہیں۔

۲۔ الطُلَم:دانتوں کا میل۔

۳۔ طَلْمَسَ:تیوری چڑھانا،ترشروئی کرنا۔ ۔ الکتابَ: تحریر مٹانا۔ اِطلَمَّسَ اللیلُ:رات کا بہت تاریک ہونا۔ الطِلمِساء:تاریکی،وہ زمین جس میں کوئی نشان وغیرہ نہ ہو،پتلا بادل۔

○ طُلُمْبَۃ ج طلمبات:پمپ(pump)

طَلْمَسَ:تیوری چڑھانا،کڑے تیوروں سے دیکھنا،قہر آلود نگاہیں ڈالنا،تیز تیز نظروں سے دیکھنا۔

طلہ:طَلَہَ ـَ طَلْھًا الرجلُ فی البلاد:ملک میں جانا۔ اطّلَہَ اِطِّلاھًا اطلاع پانا۔ الطُلَہ پتلا بادل۔ الطُلھَۃ بقیہ مال۔

طلا:۱۔ طلا ـُ طُلُوًّا ہٗ:کو ٹانگ باندھ کر روکنا۔ طَلَّی ـ طَلْیًا ہٗ:کو ٹانگ باندھ کر روکنا۔ أطلَی ت الوحشیۃ: جنگلی جانور کا(مادہ)بچہ والی ہونا۔ الطَلا و الطَلو ج أطلاء و طِلاء و طُلِیّ و طِلیان و طُلیان: ہرنی کا وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو،ہر چھوٹی چیز۔ الطِلوۃ:جنگلی جانوروں کا بچہ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

٢- طَلا ـُ طَلاوَةً الرجلُ: دیر کرنا۔
٣- اطْلَوْلَی اطْلِیلاءً: خوش کلام ہونا۔ الطُّلْوَة: صبح کی سفیدی۔ الطُّلاوة و الطَّلاوَة و الطِلاوَة: خوبصورتی، رونق (کہا جاتا ہے: هذا کلام ما علیه طلاوة: یہ غیر شستہ کلام ہے۔ (یعنی ایسی گفتگو ہے جس میں کوئی خوبی و رونق نہیں) جادو، سحر۔
٤- الطِلْو (ح): بھیڑیا۔ الطُلاوَة: پینٹ۔ و الطَّلاوَة و الطِلاوة: منہ میں کھانے کا بقیہ، خون یا دودھ کے اوپر کی جھلی۔
○ طَلَی ـِ طَلْیاً و طَلْوًا ھ ب: کو سے پینٹ کرنا، کو کا روغن کرنا، کو سے لیپنا، پوتنا، کی استر کاری کرنا، کو کا کوٹ کرنا، پلستر کرنا، پر کچھ چڑھانا، کا ملمع کرنا، پر کا پتر چڑھانا۔ طلَی ھ بالذهب: پر سونے کا پتر چڑھانا، پر سونے کا ملمع کرنا۔ طلی ھ بالکهرباء: کو طرح دینا، پر نکل کرنا، چاندی کا پانی چڑھانا، ملمع کرنا، صیقل کرنا۔ طلی ھ بالمیناء: پر مینا کاری کرنا۔ لم تَنْطَلِ علیه هذه الحیلة: یہ چال اس پر نہ چلی، یہ چال اسے بیوقوف نہ بنا سکی۔ طِلاء: پینٹ، پینٹ کرنا، روغن، روغن کرنا، استر کاری، کوٹنگ، مُلَمَّع کرنا، پر (مٹھائی) چڑھانا، میک اپ، چہرے کا پینٹ۔ الطلاء بالکهرباء: نکل کرنا، ملمع کرنا، طرح دینا، چاندی کا پانی چڑھانا، صیقل کرنا۔ طَلِي: دل خوش کن، پسندیدہ، عمدہ، خوبصورت۔ طَلاوَة: حسن، جمال، آن، شان، خوش پوشی، شستگی، پاکیزگی۔ الطُلْیان: اٹلی والے (The Italians) طُلَیْطِلَة: طلیطلہ (Toledo) (سپین کا ایک شہر)

طلی: ١- طَلَی ـِ طَلْیًا البعیرَ القَطرانَ او بالقطران: اونٹ پر قطران ملنا، (قطران: ایک روغنی سیال مادہ جو صنوبر جیسے درخت سے حاصل کیا جاتا ہے، تیز تار کول)۔
طَلِیَ ـَ طَلًی فوهُ: کے دانتوں کا زرد ہونا۔ طَلَّی تَطْلِیَةً البعیرَ القطرانَ: اونٹ پر قطران ملنا۔ اللیلُ الآفاقَ: رات کا عالم کو ڈھانپنا۔ تَطَلَّی و اطَّلَی بالقطران: قطران سے مالش کیا جانا۔ الطَّلَی جمع أطْلاء: قطران ملا ہوا۔ الطُّلاء: جمے ہوئے خون پر کی جھلی۔ الطِلاء: قطران، انگور کا گاڑھا رس۔ ـــ و الطَّلایَة: ہر مالش کی چیز۔ الطَّلِي و الطِلْیان: دانتوں کی زردی۔
٢- طَلَی ـِ طَلْیًا الشیءَ: کو روکنا۔ طَلَّی تَطْلِیَةً فلانًا: کو قید کرنا۔ الطِلاء: ہرن کے بچہ کی ٹانگ باندھنے کی رسی۔ الطَّلَی جمع أطْلاء: ہرن کا بچہ۔ الطَّلِیّ جمع طُلْیان: بکری کا چھوٹا بچہ۔ المَطْلَی: عمر قیدی۔

٣- طَلِيَ ـَ طَلًی لسانُهُ: زبان کا ثقیل ہونا، بھاری ہونا۔ أطْلَی: کمزوری وغیرہ کی وجہ سے گردن کا جھکی ہوئی ہونا یا جھکنا۔ الطَّلَی جمع أطْلاء: سخت بیمار۔ الطَّلْیَة و الطُّلاة جمع طُلًی: گردن۔ المُطَلَّی: خطرناک طور پر بیمار۔
٤- طَلَّی تَطْلِیَةً: گانا۔ تَطَلَّی: لہو ولعب میں مشغول ہونا۔ الطَّلَی: خواہش کہا جاتا ہے: قضی طَلاه: اس نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ الطِلَی: لذت۔
٥- طَلَّی تَطْلِیَةً فلانًا: کو گالی دینا۔
٦- الطَّلَی جمع أطلاء: شخص، وجود۔ الطُّلَیّ: دودھ کا گھونٹ۔ المِطْلَی و المِطْلاء جمع مَطالٍ: تنگ ندی۔
○ طَلَی: اس لفظ کے جدید معنی اور اس کے قدیم معنی سے پہلے درج کیے جا چکے ہیں۔

طم: ١- طَمَّ ـُ طَمًّا و طُمُومًا الاناءَ: برتن بھرنا۔ الماءُ: پانی کا ڈھانپ لینا۔ الشیءُ: بکثرت ہونا۔ الامرُ: معاملہ کا سنگین ہونا۔ ـِ طَمًّا البئرَ: کنویں کو پاٹ کر زمین برابر کرنا۔ الطِمُّ: بڑی تعداد (کہا جاتا ہے۔ جاء بالطِمِّ و الرِمِّ: وہ بہت سا مال لیکر آیا) پانی، سمندر۔ الطُمَّة: راکھ میں دبا ہوا انگارہ۔ الطُمَّة من الناس: لوگوں کا گروہ۔ طُمَّةُ القوم: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ طَمِیمُ الناس: لوگوں کی کثرت اور مختلف قسم کے لوگ۔ الطامَّة: بڑی مصیبت، قیامت۔
٢- طَمَّ ـُ طَمًّا و طُمُومًا الشعرَ: بال کاٹنا، بالوں کو ملا کر بل دینا۔ اطَّمَّ و استَطَمَّ الشعرُ: بال کاٹنے کا وقت قریب پہنچنا۔
٣- طَمَّ ـِ طَمًّا و طَمِیمًا الفرسُ: گھوڑے کا آہستہ آہستہ دوڑنا۔ الطِمُّ: عمدہ گھوڑا۔ فرسٌ طَمُومٌ: تیز رو گھوڑا۔ الطمیم (مص): نرم اور ہلکی دوڑ، عمدہ گھوڑا۔ الأطامیم: ٹانگیں۔
٤- طَمَّ ـُ طَمًّا و طُمُومًا و طَمَّمَ و تَطَمَّمَ الطائرُ: پرندہ کا ٹہنی پر اترنا۔
٥- الطِمَّ: تعجب، تعجب انگیز۔
٦- طَمْطَمَ: کھلے سمندر میں تیرنا۔ الطُمْطام: کھلا سمندر، بحر مواج، تلاطم خیز سمندر۔ الطِمْطِم و الطِمْطِمِیّ و الطُمْطُمانِي: زبان کی لکنت والا۔ الطَماطِم: ٹماٹر، ولائتی بینگن۔
○ طَمَّ ـُ طَمًّا و طُمُومًا ھ: سے چھلکنا، کو غرقاب کرنا، زیر آب کرنا، سیلاب میں مبتلا کرنا، گھیر لینا۔ انطَمَّ: طَمَّ کا قرینہ مجہول۔ طِمّ: بڑی مقدار یا بڑی تعداد، سمندر۔ الطِمّ والرِمّ: بہت بڑی دولت۔ طُماطَة و طَماطِم: ٹماٹر۔ طَماطِم: اسم جنس ہے۔ واحد طَماطِمَة۔

طما: طَمْأَنَ: دیکھئے طمن۔

طمث: ١- طَمَثَ ـُ طَمْثًا الشیءَ: کو چھونا۔
٢- طَمَثَ و طَمُثَ ـُ طَمْثًا المرأةُ: عورت کو حیض آنا۔ صفت طامِث بمعنی حائض: حیض والی عورت، وہ عورت جسے حیض آیا ہوا ہو)۔ الطَمْث (مص): میل کچیل، فساد، خون، شک کہا جاتا ہے۔ مابفلانٍ طَمْثُ رِیبَةٍ: فلاں میں شک کا میل نہیں ہے۔
○ طَمَثَ ـُ طَمِثَ ـَ طَمْثًا: عورت کو ماہواری ہونا، حیض آنا۔ طَمَثَ ـُ طَمْثًا ھا: لڑکی کا پردہ بکارت زائل کرنا (فض بکارتها) طَمْث: ماہواری حیض۔

طمح: ١- طَمَحَ ـَ طَمْحًا و طِماحًا و طُمُوحًا بصرُهُ الیه: کی طرف نظر اٹھانا، غور سے دیکھنا۔ کو نظر اٹھا کر دیکھنا۔ ـــ بأنْفِهِ: ناک چڑھانا، مغرور ہونا۔ طَمَحَ الفرسُ: گھوڑے کا اگلی ٹانگوں کو اٹھانا۔ ـــ بالشيء في الهواء: کو ہوا میں پھینکنا۔ أطْمَحَ بَصَرَهُ الیه: کی طرف نظر اٹھانا۔ الطِماح (مص): تکبر، فخر۔ الطَمّاح: بلند نظر، بلند نگاہ، حریص۔ بحرٌ طَمُوحُ الموج: بلند موج سمندر۔
٢- طَمَحَ ـَ طَمْحًا و طِماحًا و طُمُوحًا به: کو لے جانا۔ في الطلب: تلاش میں بہت کوشش کرنا۔ ـــ طِماحًا و طُمُوحات الدابّةُ: جانور کا سرکش اور منہ زور ہونا۔ ت المرأةُ علی زوجها: عورت کا نافرمان ہونا۔ صفت: طامِح جمع طَوامِح۔ طَمَحات و طَمَحاتُ الدهر: مصائب زمانہ۔
○ طَمَحَ ـَ طُمُوحًا الی: (آنکھ، نظروں کا) کی طرف رخ کرنا۔ الی: کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، پر تل جانا، کے لئے کوشش یا جدوجہد کرنا، کا آرزو مند ہونا، کا مشتاق ہونا، کے لئے لالچ، طمع یا حرص و آز سے کام لینا۔ ب: کو لے جانا، کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ طُمُوح: جدوجہد، سخت کوشش، آرزو، تمنا، خواہش، لالچ، طمع، عالی حوصلگی، بلند نظری، اولوالعزمی، بلند تمنائیں، مقصد کی بلندی۔ طَمُوح: بلند آرزو اور تمنا کرنے والا، حوصلہ مند، اولوالعزم، لالچی، طامع، حریص، خواہش مند، مشتاق، دلدادہ، شیفتہ، شائق، متمنی، شوقین، سرگرم۔ طَمّاح بمعنی طَمُوح۔ مَطْمَح جمع مطامح: سخت آرزو یا خواہش کا مقصد، جدوجہد کا مقصد، مقصد، مدعا، عالی حوصلگی، بلند نظری، اولوالعزمی، بھڑکتی ہوئی خواہش۔ طامِح بمعنی طَمُوح۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

طمخ: طَمَخَ ـ طُمُخًا بِانْفِهِ: تکبر کرنا۔

طمر: ۱ـ طَمَرَ ـ طَمْرًا المطمورةَ: کھائی کو بھرنا ـــ طَمْراً الشیءَ: کو دفن کرنا، چھپانا۔ طُمُورًا: جانا۔ طَمرَّ الشیءَ: کو لپیٹنا، دفن کرنا ـــ البیتَ: گھر کے پردے لٹکانا۔ الطَامِر (فا): کہا جاتا ہے: هو طامر بن طَامِر: وہ اور اس کا والد دونوں غیر معروف ہیں۔ الطُمُرُّ: جہل، نادانی۔ المَطْمُورَة جمع مَطامیر: تہ خانہ جس میں غلہ وغیرہ چھپایا جاتا ہے۔ قید۔

۲ـ طَمَرَ ـ طَمْرًا و طُمُورًا و طِمَاراً و طَمَرانًا: اوپر یا نیچے کودنا، اچھلنا، کودنا۔ اطَّمَرَ علی فرسه: گھوڑے پر پیچھے سے کود کر سوار ہونا۔ الطِمْر والطِمِرّ م طِمِرّة والطِمْرِ والطُمْرُور والطِمْرِیر: لمبی ٹانگوں کا تیز رفتار گھوڑا۔

۳ـ طَمَرَ ـ طَمْراً و طَمِرَ ـ طَمْراً الجرحُ: زخم کا سوجنا۔ ـت الیدُ: ہاتھ کا سوجنا، متورم ہونا۔ طُمِرَ فی ضرسه: داڑھ میں سخت درد ہونا۔

۴ـ الطِمْر جمع أَطمار: پرانا بوسیدہ کپڑا، مفلس، نادار کہا جاتا ہے لاحت الشمسُ فی الأَطْمَار: سورج کا زرد ہو جانا اور اسکی کچھ روشنی کا جاتا رہنا۔ الطَامِر: جمع طَوَامِر (ح): پتو۔ طُمُرَّةُ الشباب: آغاز جوانی۔ الطَامُور و الطُومَار جمع طَوَامیر: کاغذ، صحیفہ کہا جاتا ہے: کتب فی الطومار او الطوامیر: اس نے لپٹے ہوئے کاغذ یا کاغذوں پر لکھا۔ المِطْمَر (ب): معمار کا دھاگا۔ المِطْمَار: معمار کا دھاگا۔ مِطمار: بوسیدہ کپڑے پہننے والا، کہا جاتا ہے هو علی مطمارِ ابیه: وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے، وہ ساخت اور اخلاق وعادات میں اپنے باپ پر گیا ہے۔

○ طَمَرَ ـ طَمْراً ہ: (کو خصوصاً لاش کو) دفن کرنا، مٹی سے ڈھانپنا۔ طَمَرَ ـ ہ: (کسی چیز کو) چھپانا۔ ہ: (کنویں) کو مٹی سے بند کرنا۔ طِمْر جمع طِمار: پورانا بوسیدہ لباس، چیتھڑے، دھجیاں پھٹے ہوئے ٹکڑے۔ طِمِرّ: یکدم بھڑک اٹھنے والا جنگی گھوڑا، دوڑ کا گھوڑا۔ (Race horse) مِطْمار: شاقول کی ڈوری۔ مَطْمُور: زیر زمین۔ مَطْمُورَة: اناج کے لئے زیر زمین گودام۔ طَمَّر ہ: (گھوڑے کے) کھریرا کرنا، کو مالش کرنا۔ طُمَار: کھریرا۔ طُومَار جمع طَوَامیر: لپٹا ہوا کاغذ کاغذوں کی ریل۔

طمس: ۱ـ طَمَسَ ـ طُمُوسًا: دور ہونا کہا جاتا ہے: لا ادری این طمس: میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ بعینه: دور تک دیکھنا۔

۲ـ طَمَسَ ـ طَمْساً و طُمُوسًا: مٹنا ـــ النجمُ اَوالبصرُ: ستارے یا آنکھ کی روشنی جاتی رہنا ـــ طَمْساً الشیءَ: کو مٹانا، ہلاک کرنا، ڈھانکنا، کے اثر کو جڑ سے اکھیڑ دینا ـــ الغیمُ النجومَ: بادل کا ستاروں کی روشنی کو زائل کر دینا۔ تَطَمَّسَ و اِنْطَمَسَ: مٹنا، مٹ جانا۔ ربوعٌ طِمَاسٌ: مٹے ہوئے مکانات۔ الطَمِیس و المَطْمُوس: اندھا۔

۳ـ طَمَسَ ـ طَمَاسَةً الشیءَ: کا اندازہ کرنا۔

○ الطِماس: عسیر الفہمی۔ طَامِس: مردہ، ناپید، دھندلا، مبہم، غیر واضح، ناقابل فہم، عسیر الفہم، غامض، مُغلق۔

طمع: طَمِعَ ـ طَمَعًا و طَمَاعًا و طَمَاعِيَةً فی الشیء وبه: کا لالچ کرنا، کی حرص کرنا۔ صفت طَامِع و طَمِع و طَمُع جمع طَمِعُو۔ طُمَعَاء و أطماع و طَمَاعَی طَمُعَ ـ طَمَاعَةً: بہت لالچ کرنا، بہت لالچی ہونا۔ طَمَّعَهُ: کو حرص دلانا۔ أَطْمَعَهُ: کو لالچ میں ڈالنا۔ تَطَمَّعَ: لالچی ہونا، خواہش مند ہونا۔ الطَمَع (مص) ج أَطْمَاع: وہ چیز جس کی خواہش کی جائے، لشکر کی تنخواہ۔ الطَمَاعة: خواہش مندی۔ الطَمَّاع و المِطْمَاع: بہت لالچی، بڑا حریص۔ المَطْمَع جمع مَطَامِع: جس کی خواہش کی جائے۔ المَطمَعة: طمع کو برانگیختہ کرنے والی چیز۔

○ طَمُعَ ـ طَمَاعَةً: حوصلہ مند ہونا، اولوالعزم ہونا۔ طَمِعَ ـ طَمَعًا ب / فی: کی حرص کرنا، کا لالچ کرنا، کا آرزو مند یا متمنی ہونا۔ طمع ب من: کسی سے توقع کرنا۔ فی: کی امید ہونا۔ طَمَّعَ ہ فی: کو کا آرزو مند بنانا، کو کا لالچ دینا۔ ہ: کو للچانا، سبز باغ دکھانا، کو اکسانا، ترغیب دینا، ورغلانا، غلط راہ پر لگانا۔ ہ فی: کو کی امید دلانا، کو کی جرات دلانا، کا میں جی بڑھانا، کی پرہمت بندھانا۔ مَطْمَعَه: پرکشش شئے، کشش، ورغلاہٹ، غلط راہ پر لگانا، لالچ، ترغیب، تحریص۔ مِطماع: لالچ سے بھرا ہوا، بہت اولوالعزم۔

طمغ: طَمِغَ ـ طَمَغَات عینهُ: کی آنکھ کا کیچڑ والی ہونا۔

طمل: ۱ـ طَمَلَ ـ طَمْلاً الخبّازُ الخبزَ: روٹی کو بیلن سے چوڑا کرنا۔ الطَمْل (مص): گوندھا ہوا آٹا۔ خبزٌ طَمِیل: بیلن سے چوڑی کی ہوئی روٹی۔ المِطْلَمة: بیلن، عوام اسے شوبک کہتے ہیں۔

۲ـ طَمَلَ ـ طَمْلاً الثوبَ: کپڑے کو گہرا رنگنا ـــ الدمُ السهمَ وغیرهُ: خون کا تیر وغیرہ کو لتھیڑنا۔ طَمِلَ ـ و طُمِلَ طَمَلاً: خون تیل وغیرہ سے لتھڑنا صفت۔ طمیل۔ أَطْمَلَ الکتابَ: تحریر کو مٹانا۔ الطِمْل جمع طُمُول: [illegible] کار، کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کہا جا رہا ہے، لالچی، حریص، طامع، سیاہ کمبل، بدحال، بدہیئت فقیر، ہار، نیکلس، پرانا لباس ـــ والطَمْلة و الطُمْلَة والطَمَلَة: گدلا پانی، کیچڑ۔ الطَامِل (فا): بدکار اور بے شرم، جسے اپنے کئے کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ الطُمُول: بمعنی بالا۔ الطُمُولَة: خباثت، بدکاری۔ الطَمِیل: گدلا پانی، ہار۔ سهمٌ طَمِیل: خون آلود تیر۔

۳ـ طَمَلَ ـ طَمْلاً الراعی الابلَ: چرواہے کا اونٹوں کو سختی سے ہانکنا۔

۴ـ انْطَمَلَ الرجُلُ: چوروں کا شریک بننا۔

۵ـ الطَمْل: ساری مخلوق۔ خلقت۔ الطِمْل ج طُمُول: بے وقوف۔ الطمیل: گمنام۔ چٹائی، چوڑا پھل، (ح) بکری کا بچہ۔

طمن: ۱ـ طَمْأَنَ طَمْأَنَةً و طَامَنَ ظهرَهُ: پیٹھ کو جھکانا، نیچا کرنا۔ تَطَأْمَنَ: پست ہونا۔ اطْمَأَنَّ اطْمِئنانًا و طُمَأْنِینَةً: پست ہونا۔ المُطْمَئِن من الارض: پست نشیبی، زمین، ہموار زمین۔

۲ـ طَمْأَن طَمْأَنَةً طَأْمَنَ الشیءَ: کو ساکن کرنا، عوام کہتے ہیں طَمَّنَهُ: اس نے اس پر سکون کیا، چپ کرایا۔ اطْمَأَنَّ اطمئنانًا و طُمَأْنِینَةً الیه: سے سکون حاصل کرنا، قرار پکڑنا کہا جاتا ہے اطْمَأَنَّ عما کان یفعله: جو کر رہا تھا اسے چھوڑ دیا۔ الطَمْن جمع طُمُون والمُطْمَئِن: پرسکون، ساکن، آرام سے لطف اندوز۔

○ طَمَّن ہ / ہ: کو چپ کرانا، کو ساکن یا ساکت کرنا، تسکین دینا، بند کرنا، روکنا، کا جوش فرد کرنا، ٹھنڈا کرنا، دھیما کرنا، آفاقہ دینا، گھٹانا، کم کرنا، کی تخفیف کرنا، کو تسلی دینا، تسکین پہنچانا۔ تطَامَن: نیچا ہونا یا ہو جانا، نشیبی ہونا، بیٹھنا، بیٹھ جانا، عام سطح پر آنا، فرو ہونا، دھنس جانا، پرسکون ہونا، ساکت ہونا، گھٹنا، کم ہونا یا ہو جانا، جھکنا، جھکا ہونا۔ تطمین: تشفی، تسکین، تخفیف، تسلی۔ مُتطَامِن: نیچا، نشیبی۔

طما: طَمَا ـ طُمُوًّا الماءُ: پانی کا بلند ہونا اور دریا کو بھر دینا۔ البحرُ: دریا کا چڑھنا یا طغیانی میں آنا، دریا کا بھرا ہوا ہونا۔ النبتُ: پودے کا اونچا ہونا۔ ـت همَّته: خیال کا بلند ہونا۔ به الهمُّ او الخوفُ: سے غم یا خوف کا بڑھ جانا۔ طَمِیَ ـ طَمْیًا الماءُ والبحرُ والنبتُ: پانی، دریا اور پودے کا بلند ہونا، اونچا ہونا، طغیانی میں آنا اور اونچا ہونا۔

○ طَمَا ـ طُمُوًّا و طَمَی ـ طَمْیاً: کناروں پر سے بہنا۔ طَمْي: سیلابی کیچڑ، گار، سیلاب کی لائی ہوئی مٹی یا ریت

طنّ: طَنَّ ـ طَنًّا و طَنِینًا و طَنَّ الذبابُ او الناقوسُ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وشـــه ذلك: مکھی یا ناقوس وغیرہ کا بھنبھنانا، بجنا، آواز دینا۔ أَطَنَّ ہٗ کو بجانا۔ الساق: پنڈلی کاٹنا۔ اس سے مراد کاٹنے کی آواز ہے۔ الطَّنَّان: بہت بجنے والا کہاجاتا ہے: لفلان ذکر طَنَّانٌ: یعنی وہ مشہور ہے۔ تلك قصیدةٌ طَنَّانَةٌ: اس قصیدہ کی ہر جگہ شہرت ہے، اس نظم کا ہر جگہ چرچا ہے۔ الطَّنَّانَة (ح) ایک اڑنے والا کیڑا، جس کے پرواز کے دوران پر بھنبھناہٹ سنتے ہیں، پھولوں کے پودوں کی کونپلیں پھوٹنے میں مدد دیتا ہے۔

۲- طَنَّ ۔ طَنًّا و طنینًا فلانٌ: مرجانا، مرنا۔

۳- الطَّنّ: بانس کا گٹھا۔ ج طنان و أَطْنَان انسان وغیرہ کا بدن۔ ایک ہزار کلو کا وزن (ٹن) الطُّنَّة: ایک بانس۔ الطِّنِّی من الرجال: بڑے ڈیل، ڈول کا آدمی۔

۴- طَنْطَنَ طَنْطَنَةً الجرسُ والطستُ والذبابُ ونحوها: گھنٹی کا بجنا، طشت کی جھنکار ہونا، مکھی کا بھنبھنانا وغیرہ۔

○ طَنِین: (گھنٹی کی) جھنکار، ملی جلی، ٹن ٹن، یا بجنا، چھن چھن، چھنا کا (کیڑے کی) بھنبھناہٹ (کانوں کا) بجنا۔ طَنَّانٌ: بجنے والا، آواز نکالنے والا، زور سے بجنے والا، ٹن ٹن کرنے والا، گرجنے والا، کڑکنے والا، زور کی آواز نکالنے والا، گونجنے والا، گونج کی آواز نکالنے والا، چرچا والا، مرتعش، گونج دار، بھنبھناہٹ والا، تتلی کا بھونپو کی سیٹی، مشہور، معروف، نامی گرامی۔

طنأ: ۱- طَنِأَ ۔ طَنْأً و طَنِیً ۔ طَنَأً: شرم کرنا، حیا کرنا۔

۲- أَطْنَأَ: کسی جگہ یا حوض، بچھونے کی طرف مائل ہونا اور کاہلی سے سوجانا۔ الطِّنْء: برائی کی طرف رجحان، بدکاری، مکان، بچھونا۔

۳- أَطْنَأَ کہاجاتا ہے۔ حیَّةٌ لا تُطْنِیءُ: وہ سانپ جس کا ڈسا ہوا فوراً مرجائے۔ الطِّنْء: بقیہ روح، بقیہ زندگی کہاجاتا ہے۔ رُمِیَ فلانٌ فی طِنْئِهِ: یعنی فلاں شخص مرگیا۔

۴- الطِّنْءُ: بجھی ہوئی راکھ، باغ اولوالعزمی کہاجاتا ہے: فلانٌ بعید الطِّنْء: یعنی فلاں شخص اولوالعزم ہے) شک۔

طنب: ۱- طَنِبَ ۔ طَنَبًا الرمحُ: نیزہ کا ٹیڑھا ہونا۔ الفرسُ: گھوڑے کا لمبی پیٹھ اور لمبی کمزور ٹانگوں والا ہونا۔ صفت أَطْنَب م طَنْباء

۲- طَنَّبَ الخیمةَ: خیمہ لگانا، نصب کرنا۔ ــــ السقاءَ: مشک میں پیوند لگانا۔ بالمکان: کسی جگہ قیام کرنا۔ طَانَبَ القوم: قوم کے خیموں کی رسی کے ساتھ اپنے خیمہ کی رسی ملانا۔ تَطَانَبَ القومُ: لوگوں کا اپنے خیموں کی رسیوں کو ایک دوسرے کی طرف کرنا۔ الطُّنُب جمع أَطْنَاب و طِنَبَة: خیمہ کی لمبی رسی (ع ا) جسم کا پٹھا (ز) درخت کی جڑ کہاجاتا ہے۔ مدّت الشمسُ أطنابها: یعنی سورج طلوع ہوا۔ تقبّضت أَطْنابُها: سورج غروب ہوگیا۔ الطُّنُب والإطْنَابَة جمع أَطَانِیب: کمان کے قبضہ پر باندھنے کا تسمہ۔ المِطْنَب جمع مَطَانِب: کندھا۔

۳- طَنَّبَ الذئبُ: بھیڑیے کا بھونکنا۔

۴- أَطْنَبَ ت الابلُ: اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔ خیلٌ أَطَانِیب: ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے گھوڑے۔ جیشٌ مِطْنَابٌ: جرار لشکر۔

۵- أَطْنَبَ فی الوصف او العَدْو: صفت بیان کرنے یا دوڑ میں مبالغہ کرنا۔ کہاجاتا ہے۔ أَطْنَبَ الشاعرُ فی الکلام: شاعر کا کلام میں حدیں پھلانگ جانا۔ مدح یا ذم کے بیان میں بلاغت کے جوہر دکھانا۔ ت الریحُ: ہوا کا غبار اٹھانا۔ المُطْنِب (فا) ہر ایک کی تعریف کرنے والا۔

۶- الطُّنْبُور والطِّنبار ج طَنَابِیر (مو): ستار۔

۷- طَنْبَلَ طَنْبَلَةً الرجلُ: سمجھ کے بعد بیوقوف بننا۔ الطَّنْبَل: سست وکند ذہن، بیوقوف۔ الطَّنْبَلَة (مص) کہاجاتا ہے: کان بینهم طَنْبَلَةٌ: ان کے درمیان شروفساد تھا۔

○ طَنَّبَ ب: میں رہنا، اقامت گزین ہونا، قیام کرنا، رک جانا، آباد ہونا۔ أَطْنَبَ فی: میں حد سے زیادہ، فزوں ہونا، مبالغہ سے کام لینا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ــ شیخی بگھارنا۔ طُنُبٌ جمع أَطْنَاب: خیمہ کی رسی، نس، وتر۔ شدَّ أَطْنَابَهُ: ٹھہرنا، عارضی قیام کرنا، رہنا، رہائش رکھنا۔ ضرب اطنابه علی: کسی جگہ آباد ہونا، مستقل رہائش اختیار کرنا۔ ضَرَبَ اطنابه فی: کسی جگہ جم جانا، مستحکم ہونا، میں عام ہونا، کا رواج ہونا۔ إِطْنَاب: مبالغہ، بہت طولانیت، طول طویل ہونا، لفاظی۔ طُنْبُور جمع طَنَابِیر: آبپاشی کے لئے پانی اونچا کرنے میں استعمال ہونے والا ایک آلہ، ڈرم، سلنڈر۔ طُنْبُوری: ستار نواز۔ طنج: الطَّنْجَرَة: تانبے کی دیگچی (ترکی لفظ)۔ الطِّنْجِیر: کڑاہی۔ بزدلی اور کمینہ سے کنایہ۔

طنخ: طَنِخَ ۔ طَنَخًا: بدہضمی ہونا، دل پر چربی کا غالب ہونا، موٹا ہونا۔ صفت طَنِخ و طَانِخ۔ ت نفسُهُ: جی کا بگڑنا۔ طَنَّخَ و أَطْنَخَ ہٗ کو بدہضمی کرنا۔ الطِّنْخ: کہاجاتا ہے: مَرَّ طِنْخٌ من اللیل: رات کا ایک پہر گزر گیا۔

طنز: طَنَزَ ۔ طَنْزًا بہ: کا تمسخر اڑانا۔ تَطَانَزَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر کرنا۔ الطَّنَّاز: تمسخر کرنے والا۔

طنط: الطُّنْطُلَة (عند العامة): گلے کا کوا، صحیح لفظ الطُّلاطِلَة ہے۔

○ طَنْطَا: شمالی مصر کا ایک شہر۔

طنف: ۱- طَنِفَ ۔ طَنَفًا: متہم ہونا۔ طَنَّفَ ہٗ پر تہمت لگانا۔

۲- طَنِفَ ۔ طَنَافَةً و طُنُوفَةً و طَنَفًا: بدباطن ہونا۔ صفت طَنِف۔ طَنَّفَ نفسَهُ الی کذا: نفس کو طمع کے نزدیک کرنا، کی حرص کرنا۔

۳- طَنَّفَ الجدارَ: دیوار پر کانٹے یا ٹہنیاں رکھنا، دیوار پر کگر (کانس) لگانا۔ تَطَنَّفَ القومَ: لوگوں کے پاس جا کر انہیں گھیر لینا۔ الطَّنَف والطُّنُف والطِّنَف والطُّنُف جمع طُنُوف و أَطْنَاف: چھجہ، کارنس، پہاڑ کی نکلی ہوئی چٹان، ابھرا ہوا حصہ۔ المُطْنِف: چھجہ یا کانس والا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے والا۔

○ طُنُف، طَنَف و طُنُف جمع طُنُوف و أَطْنَاف: اوپر کا حصہ، چوٹی (پہاڑ کی) کگر، کھڑی چٹان، کے پہلو سے ابھرا ہوا پتھر۔

۴- طَنْفَسَ: بدخلق ہونا، بہت سے کپڑے پہننا۔ الطِّنْفِس: ردی و بدشکل۔ الطُّنْفُسَة و الطَّنْفَسَة والطِّنْفِسَة جمع طَنَافِس: فرش، چٹائی، کپڑا (فارسی لفظ)

طنو: الطُّنُو بدکاری۔ الطِّنْو فرش۔

طنی: ۱- طَنِیَ ۔ طَنًی و أَطْنَی: تلی یا پھیپھڑے کا پہلو یا پسلیوں سے چمٹنا۔ صفت طَنٍ و طَنِیّ

۲- طَنِیَ ۔ طَنًی اللدیغُ من لدغ العقرب: بچھو کے ڈسنے سے اچھا ہوجانا۔ طَنَّی فلانًا: کی تلی یا پھیپھڑے کی بیماری کا علاج کرنا۔ أَطْنَی ہُ المرضُ: بیماری کا مریض میں اپنا اثر باقی رکھنا۔ الطَّنَی بیماری۔

۳- طَنِیَ ۔ طَنًی و أَطْنَی فی فجوره او فساده: بدکاری وفساد میں ہمیشہ مبتلا رہنا۔ الطَّنَی: بدکاری و فساد۔ الطَّانِی (فا) جمع طُنَاة زانی۔

۴- الطَّنَی: تہمت، بجھی ہوئی راکھ۔

طهر: ۱- طَهَرَ ۔ وطَهُرَ ۔ طُهْرًا و طُهُورًا و طَهَارَةً: پاک ہونا صفت طَاهِر جمع أَطْهَار و طَهِر جمع طَهِرُون و طَهِیر جمع طَهَارَی کہاجاتا ہے: رجلٌ طَاهِرُ الثیاب: پاکدامن۔ طَهَّرَہٗ: کو پاک کرنا۔ الشیء بالماء: کو پانی سے دھونا۔ تَطَهَّرَ و اِطَّهَّرَ: میل سے پاک صاف ہونا، غسل کرنا۔ الطُّهْر: پاکی (حیض سے)۔ الطُّهْرَة: پاکی صفائی، پانی سے غسل۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الأطْهَار: عورت کی پاکی کے دن۔ الطَّهُورُ (مص): جس سے پاکی حاصل کی جائے۔ المَطْهَر: موت کے بعد محدود مدت کے عذاب سے نیک لوگوں کو پاک کرنے کی جگہ۔ المَطْهَرَة و المِطْهَرة جمع مَطَاهِر: وضو وغیرہ کا لوٹا، نہانے کا کمرہ، کہا جاتا ہے۔ السواكُ مَطْهَرَةٌ للفم: مسواک منہ کی صفائی کرتی ہے۔ المُطَهِّرة: متعدی مراض کے بیمار کے کپڑے صاف کرنے کا آلہ۔

۲۔ طَهَرَ - طَهْرًا هُ: کو دور کرنا۔

○ طَهَرَ و طَهُرَ - طُهْرًا و طَهَارَةً: پاک ہونا، پاک صاف ہونا۔ طَهَرَت و طَهُرَت: عورت کا حیض سے پاک ہونا۔ طَهَّره / ه: کو صاف کرنا، اچھی طرح سے دھونا، مانجھنا، گناہوں سے پاک کرنا، پونچھنا، صاف کرنا، قابل اعتراض حصے نکال دینا، سزا دے کر سدھارنا۔ ہ کے وبائی اثرات دور کرنا، کو جراثیم سے پاک کرنا، کے جراثیم مارنا ۔۔۔ ہ (نہر وغیرہ سے) گار نکالنا ۔۔۔ ہ کا ختنہ کرنا۔ طَاهَره: کا ختنہ کرنا۔ تَطَهَّرَ: اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، وضو کرنا۔ طُهُور: ختنہ، پاکیزگی، پاکی، صفائی ستھرائی، صاف کرنے والا، صاف، پاک۔ طَهَارَة: صفائی، پاکیزی، پاکی، پاکدامنی، تقدس، بزرگی، تقدیس، ختنہ۔ طهارة الذیلِ: معصومیت، بیگناہی، دیانت داری، دیانت۔ مَطْهَرة جمع مَطَاهِر: غسل خانہ، منہ ہاتھ دھونے کا کمرہ، وضو خانہ، بیت الخلاء (Toilet) طاهِر الذِمّة: دیانتدار، نیک، خداترس۔ طاهر الذیل: معصوم، بے گناہ، پاکدامن، دیانت دار۔ مُطَهِّر جمع مُطَهِّرات: جراثیم کش۔ مُطَهَّر: پاک صاف، بے عیب، بے داغ۔ طِهْرَان: ایران کا دارالحکومت۔

طھس: طَهَسَ - طَهْسًا في الارض: زمین میں داخل ہونا۔ اور گھسنا۔

طھش: طَهَشَ - طَهْشًا العملَ: کام بگاڑنا۔

طھف: ا۔ أَطْهَفَ السقاءُ: مشک کا ڈھیلا ہونا۔ زبدة طَهْفَة: نرم مکھن۔

۲۔ أَطْهَفَ في الكلام: روانی اور آسانی سے کلام کرنا، روانی سے بولنا۔

۳۔ أَطْهَفَ لفلان من ماله طِهْفَةً: فلاں کو اپنے مال سے کچھ حصہ دینا۔ الطِهْفَة من الشيء: ٹکڑا۔ الطُهَافَة: پیشانی کے بال، گیسو یا بالوں کی لٹ۔

۴۔ الطُهَف: پناہ۔ الطهاف من السحاب: بلند بادل۔

طھق: طَهَقَ - طَهْقًا: تیز چلنا۔

○ تَطَهَّق من: سے سخت نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، سے کراہت کرنا، گھن کھانا۔

طھل: طَهَلَ و طَهِلَ - طَهْلاً و طَهَلاً و تَطَهَّلَ الماءُ: پانی کا خراب ہونا۔ صفت۔ طَاهِل و طَهِل۔ أَطْهَلَت الارضُ: زمین کا تھوڑی سی گھاس اگانا۔ الطُّهْلَة: چیز کا بقیہ، تھوڑی سی گھاس۔

طھم: طَهُمَ الشيءُ: بڑا ہونا، موٹا ہونا۔ منه: سے بچنا، پہلوتہی کرنا، پہلو بچانا، کنی کترانا۔ تَطَهَّمَ الطعامَ: کھانے سے کراہت کرنا، گھن کھانا۔ المُطَهَّم: موٹا، نحیف الجسم، مکمل اور بہت خوبصورت چیز۔ جَوَادٌ مُطَهَّم: مکمل خوبصورت گھوڑا۔

طھا: ا۔ طَهَا - طُهُوًّا: ملک میں ادھر ادھر پھرنا۔

۲۔ طَهَا - يَطْهِي طَهْوًا و طُهُوًّا و طُهِيًّا و طَهَايَةً اللحمَ: گوشت کو پکانا یا بھوننا۔ أَطْهَى اطْهَاءً: اپنی صنعت میں ماہر ہونا۔ الطَهْو (مص): کام کہا جاتا ہے: كان طَهْوِي كذا: میرا کام ایسا تھا۔ الطُهَى: پکایا ہوا۔ الطَاهِي (فا) جمع طُهَاة و طُهِيّ م طَاهِيَة جمع طَوَاهٍ و طَاهِيَات: باورچی، بھوننے والا، نانبائی۔ الطِهَايَة: باورچی کا پیشہ۔

۳۔ الطَهَى: تنگا۔ الطُهَى: گناہ، جرم۔ الطَهَيُّ: سخت چوٹ، پتلا بادل۔ الطُهَاوَة: دودھ یا خون کے اوپر کی جھلی۔ الطَهَاءَة: بلند بادل۔

○ مَطْهَى: باورچی خانہ۔

طاء: طَاءَ - طُوءًا: آنا جانا، آمد و رفت کرنا۔ في الارض: ملک میں دور نکل جانا۔ تَطَاءَ تَطَايُؤًا تِ الاسعارُ: بھاؤ کا گراں ہونا، قیمتوں کا چڑھنا۔ الطَاءَة: چراگاہ میں دور نکل جانا، سیاہ کیچڑ۔ الطُوئِيّ: کہا جاتا ہے۔ مابالدار طُوئِي: گھر میں کوئی نہیں۔

طوب: الطُوب: (واحد طُوبَة) پختہ اینٹ۔ الطَوَّاب: اینٹیں بنانے والا۔

۲۔ الطوبو غرافيا: جغرافیائی خصوصیات۔ ان کا تذکرہ (Topography) (یونانی لفظ)

○ طَوَاشي جمع طَوَاشية: ہیجڑا، خواجہ سرا۔ طَوَّايَة: فرائی پان (Frying pon)

طَابَة: جمع طابات: گیند۔

طاح: طَاحَ - طَوْحًا: بھٹکنا، ادھر ادھر پھرنا، مارا مارا پھرنا، ہلاکت کے نزدیک پہنچنا۔ السهمُ: تیر کا نشانہ سے چوکنا۔ طَوَّحَ تَطْوِيحًا هُ: کو راہ سے بھٹکانا۔ الشيءَ: کو ضائع کرنا ۔۔ به: کو خطرناک امور پر اکسانا، کو ہوا میں پھینکنا، کہا جاتا ہے: طَوَّحَتْ به طوائح الزمن: حوادث زمانہ نے ...

دیا۔ طَيَّحَ تَطْيِيحًا الشيءَ: کو ضائع کرنا۔ طَاوَحَ مُطَاوَحَةً هُ بكذا: کو ایک دوسرے کی طرف پھینکنا۔ أَطَاحَ هُ: کو ہلاک کرنا، تباہ کرنا۔ الشعرَ: بال گرانا۔ تَطَوَّحَ في البلاد: اپنے آپ کو ملکوں میں پھینک دینا، سرگرداں ہونا۔ في البئر: کنویں میں گرنا کہا جاتا ہے۔ نام على مَطِيَّته يَتَطَوَّحُ: وہ اپنی سواری پر سو گیا اور ہوا میں جاتا آتا رہا۔ تَطَاوَحَ تَطَاوُحًا القومُ فلانا بالامر او بالضرب: میں باہم تنازع کرنا۔ تطاوحت به النوى: فراق الابعد نے اس کو پھینک دیا یعنی اس نے مختلف ملکوں میں لمبا سفر کیا۔ الطَوَح دور نیَّةٌ طَوَحٌ: دور کی نیت۔ الطَوَائِح: قسمت کے حادثات۔ المَطَاوِح واحد مَطَاحَة: ہلاکت کی جگہیں۔ المِطْوَاح: لاٹھی۔

○ طَاحَ - طَوْحًا: فنا ہو جانا، مر جانا، اپنی راہ گم کرنا، غلط راستے پر چلنا، بھٹکنا، ادھر ادھر مارے مارے پھرنا، گر پڑنا۔ طَاحَ ب: کو پھینکنا۔ طَوَّحَ ہ / ب: کو مروانا، خطرہ میں ڈالنا ۔۔۔ ب: کو دور پھینکنا۔ ب الي: کو میں پھینکنا، کو میں لے جانا۔ ہ الي: کو پر اکسانا۔ طَوَّحَت به الطوائح: قسمت نے اسے سخت چرکے لگائے۔ أَطَاحَ ہ / ہ: کو گرانا، کو بے کار سمجھ کر پھینکنا، ترک کرنا ۔۔ ب: کو جانے دینا، لے جانا، پھاڑنا، چیرنا۔ ۔۔ ہ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاٹ ڈالنا (خصوصاً سر کو) تَطَوَّحَ: گرنا، پھینکا جانا، مارا مارا پھرنا، بھٹک جانا، بھٹکتے پھرنا، ہلنا، جلنا، جھومنا، چکرانا، چکرا جانا، لڑکھڑا کر چلنا، ڈگمگانا۔ طَوَائِح: مصائب، آفات، قسمت کے چرکے۔ مُطَوِّحة جمع مُطَوِّحات: سانحہ، غیر متوقع بات، مہم، کارنمایاں، جان بازی کا کام۔

طاخ: طَاخَ - طَوْخًا هُ: کسی کو گالی دینا، کی برائی کرنا صفت طَوَّاح

طاد: ا۔ طَادَ - طُوْدًا: ثابت قدم رہنا۔ الطَوْد (مص) جمع اطْوَاد و طِوَدَة: بڑا پہاڑ، ٹیلہ۔ المُنْطَاد جمع مَنَاطِيد: بلند کہا جاتا ہے۔ بِنَاءٌ مُنْطَاد: بلند عمارت۔

۲۔ طَوَّدَ في البلاد: ملکوں میں پھرنا۔ به: کو جان لیوا صحراء میں چلنے پر اکسانا۔ تَطَوَّدَ في البلاد: ملکوں میں پھرنا۔ انْطَادَ: ہوا میں بلند ہونا۔ التَطْوَاد: گھومنا، پھرنا۔ المَطَادَة: لق و دق بیابان۔ المَطَاوِد: خطرناک جگہیں۔ المَنْطَاد جمع مَنَاطِيد: غبارہ۔

○ انْطَادَ: ہوا میں بلند ہونا، اوپر اور اوپر کو اڑنا۔ طَوْد جمع أَطْوَاد: بلند اور اونچا پہاڑ۔ مُنْطَاد جمع مَنَاطِيد: غبارہ۔ مُنْطَاد مُقَيَّد: زمین بستہ غبارہ۔ پتنگ، کنکوا، گڈی۔ منطاد هوائي ثابت: طیارہ روک غبارہ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

طار ۱- طَارَ ـ طَوْرًا و طَوَرَانًا بفلان: کے نزدیک ہونا- الطَوْر (مص): جمع أَطْوَار: حد، مقابل، اندازہ کہا جاتا ہے- عدا طَوْرَهُ: وہ حد سے بڑھ گیا- جَاوَزَ طَوْرَهُ: وہ اپنے اندازہ سے بڑھ گیا- الطُوْر: گھر کا صحن، مقابل کی چیز، مثل- الطَوَار: مقابل کی چیز، مثل کہا جاتا ہے- هذه الدار على طَوَارِ داری: اس گھر کی دیوار میرے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہے- والطِوار: گھر کا صحن- طارَةُ المُنْخلِ: چھلنی کا چولی کیہ، یہ بگڑی ہوئی عربی ہے- صحیح لفظ إطار ہے- کہا جاتا ہے- بَلَغَ فلانٌ في العلم أَطْوَرَيْهِ: فلاں علم میں اس کے دونوں کناروں تک پہنچ گیا- یعنی علم کی انتہائی حدود تک جا پہنچا-

۲- الطَور جمع أَطْوَار: ہیئت، حال (کہا جاتا ہے: الناسُ اطوار: لوگ کئی قسم کے ہیں، مختلف حالات کے ہیں-) ایک بار کہا جاتا ہے- أتيته طوراً بعد طور: میں اس کے پاس بار بار آیا- الطور: پہاڑ- الطُوری: اجنبی- و الطُوَرانِيّ: وحشی پرندہ اور آدمی کہا جاتا ہے- ما بالدار طُورِيٌّ او طُورَانِيٌّ: گھر میں کوئی بھی نہیں- الطارُو الطارَةُ (مو): ایک طرح کا موسیقی کا آلہ، طنبورہ (عام بول چال میں) کہا جاتا ہے- لَقِيَ منهُ الأَطْوَرِيْنَ: اس کو اس سے بڑی مصیبت پہنچی (جمع سالم مبالغہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے)

۳- الطُورْبِيل: جسے الطوربید بھی کہا جاتا ہے، تارپیڈو، آبدوز گولہ (Torpedo) (اٹلی زبان کا لفظ)

○ طَوَّرَہٗ: کو بڑھانا، پختگی یا تکمیل کو پہنچانا، ترقی دینا- تَطَوَّرَ: پختگی اور تکمیل کو پہنچنا، نشوونما پانا، ارتقا پذیر ہونا، تبدیل ہونا، متغیر ہونا، دوڑ کا مقابلہ کرنا (گاڑی کا) طَوْر جمع أطوار: ایک بار، حالت، حد، مرحلہ، درجہ، اور (Phase) طوراً بعد طور: بار بار، اکثر- طوراً - طوراً یا حیناً - طوراً: کبھی کبھی، کبھی کبھار- خرَجَ عن طَوْرِہ: پریشان ہو جانا، ضبط نفس کھو دینا- اخرجه عن طوره: کو پریشان کرنا، کے اطمینان و سکون میں خلل ڈالنا- غريبُ الاطوار: سنکی- طُورُ سيناء و طُورُ سينا: سینا پہاڑ (Mount Sinai) طُورِي: وحشی- طَوَار: بٹ پاتھ، پٹری- طُورانی: وحشی، طورانی- تَطَوُّر جمع تَطَوُّرات: ترقی، تکمیل، بالیدگی، نشوونما، ارتقاء، جمع تطوّرات: ترقی کے مراحل، ارتقائی ادوار، نئی صورت حالات، ترقی یافتہ حالت- قابلُ التطوّر: قابل ترقی وارتقاء- تَطَوُّری: ارتقائی- نظريةٌ تطوريةٌ: نظریۂ ارتقاء- طار = اطار: حلقہ، دائرہ، کڑا، تار، فریم، پہیہ، گھیرا- طنبورہ-

طاس ۱- طَاسَ ـ طَوْساً الوجهُ: چہرہ کا خوبصورت ہونا- طَوَّسَهُ: کو آراستہ کرنا، سجانا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا- المصوّر: تصویرکش کا مور کی شکل بنانا- تَطَوَّسَتِ المرأةُ: عورت کا آراستہ ہونا، سنگار کرنا- ــــــ للحماقة: حماقت سے پھول جانا- الطَوْس (مص): چاند- الطَاوُوس و الطُاوُوس: مور- جمع اطواس و طَوَاوِيس تصغير: طُوَيْس-

۲- طَاسَ ـ طَوْساً الشيءَ: کو روندنا-

۳- طَوَّس به: کو لے جانا-

۴- الطَاس جمع طاسات: پینے کا برتن- الطُوس: ایک دست آور دوا-

○ طاس جمع طاسات و طاسة جمع طاسات: پینے کا برتن- طاسةُ التحمير: فرائی پان- طاسة التصادم: بفر، ٹکر روک، (ریل کی پٹری) (Buffer) مُطَوَّس: مزین، دکھاوے کے طور پر آراستہ، سجا ہوا، سنگھار کئے ہوئے-

طوش: طَوَّشَ الرجُلُ: قرض دار کو ٹال مٹول کرنا- الذَكَرَ: کو آختہ کرنا، ہیجڑا بنانا- الطَواشي جمع طَواشِيَة: آختہ، خصی کیا ہوا، ہیجڑا، خواجہ سرا (فارسی لفظ)

طاع: ۱- طَاعَ ـ طَوْعًا لفلان: کی تابعداری کرنا، کا فرمانبردار ہونا- صفت طائِع جمع طُوَّع و طائعون: کہا جاتا ہے- أَمَره فاطاع (صرف الف کے ساتھ) اس نے اسے حکم دیا تو اس نے اسکی تابعداری کی- لسانُهُ لا يطوع بكذا: میں اسکی زبان اسکا ساتھ نہیں دیتی- طَاعَ له المرقعُ: چراگاہ اس کے لئے وسیع ہے- وہ جب چاہے اپنے مویشیوں کو وہاں چھوڑ سکتا ہے- طَوَّعَهُ: کو تابعدار بنانا- ت لهُ نفسُهُ كذا: دل کا اسکو کچھ کرنے کی اجازت دینا اور اسے آسان کرنا- طاوَعَ مطَاوَعَةً هُ في الامر و عليه: سے میں اتفاق کرنا کہا جاتا ہے- طاوع له المرادُ: کی مراد آسانی سے برائی- أَطَاعَ اطاعَةً و طَاعَةً هُ: کی فرمانبرداری کرنا، کا تابعدار ہونا- هُ و أَطَاعَ له المرعى: چراگاہ کا کسی کے لئے وسیع ہونا اور اپنے مویشی چرانے کا مجاز بنانا- تَطَوَّع: بتکلف اطاعت کرنا- تَطَوَّع في الجندية: فوج میں رضا کارانہ شامل ہونا- بالشيء و للشيء: بتکلف کی استطاعت ظاہر کرنا- انْطَاعَ انطِياعًا له: کا تابع و فرماں بردار ہونا- استطاع استطَاعَةَ الامرَ: کی طاقت رکھنا، کا لائق ہونا، کو کر سکنا، (تاء حذف کرکے) اسْطَاعَ ويسطيع بھی کہا جاتا ہے- الطَوَاعَة: الطوع کا مصدری اسم- الطَوَاعِيَة: طاعت فرمانبرداری کہا جاتا ہے- فلانٌ حسنُ الطواعية: فلاں ایک اچھا فرمانبردار ہے- الطَاع والطَوْع والطَيِّع: تابعدار، فرمانبردار، مطیع کہتے ہیں- هو طوعُ يدك: وہ آپ کا تابعدار ہے- فرسٌ طوع العِنان: تابعدار اور نرم گھوڑا- عَمِلَهُ طوعًا: اس نے وہ کام بخوشی کیا- المِطْوَاع و المِطْوَاعة: مطیع، فرمانبردار، تابعدار-

۲- أَطاعَ الشجرُ: درخت کے پھلوں کا پکنا-

۳- تَطَوَّعَ بالشيء: کوئی چیز عطیہ کے طور پر دینا- المُتَطَوِّع و المُطَّوِّع: واجبات اور فرائض کے علاوہ دیگر اعمال صالحہ کو بطور نفل ادا کرنے والا، رضا کار- المُطَّوِّعَة: رضا کار، والنٹیر، جہاد میں اپنے آپ کو رضا کارانہ طور پر شامل کرنے والا-

○ تَطَوَّعَ خيرًا: رضا کارانہ طور پر عمل صالح بجالانا- طوعًا: رضا کارانہ طور پر، اپنی مرضی سے، برضا ورغبت طَوْعًا او كَرْهًا: خوشی سے یا ناخوشی سے، خواہی نخواہی، مرضی ہو یا نہ ہو- طَوْعُ العنان: آسانی سے قابو میں آجانے والا، اثر پذیر، تاثر پذیر، مطیع، اطاعت شعار، تربیت پذیر یا اطاعت پذیر- طَوْعُ يده: کے زیر اثر، کے تابع فرمان، کے حکم کے ماتحت- هو طوعُ ايدينا: وہ ہمارے حکم کے ماتحت ہے- طوعُ امرِك: آپ کے ہاتھ میں، آپ کے سپرد، آپ کی تحویل میں- طوعيًا: برضا کارانہ طور پر، اپنی مرضی سے- السمعُ والطاعة: میں سنتا ہوں اور تعمیل کرتا ہوں، آپکی خدمت کے لئے حاضر ہوں، آپ کی خدمت پر کمربستہ ہوں- سمعًا و طاعةً بمعنی السمع و الطاعة- عَنْ طواعيه: برضا کارانہ طور پر، اپنی مرضی سے- طائِعًا او كارهًا: خوشی سے یا ناخوشی سے- قدرَ المستطاع: جہاں تک ممکن ہو/ ہوا، جہاں تک قابل عمل ہو/ ہوا- بقدر المستطاع اور على قدر المستطاع بمعنی قدرَ المستطاع

طاف ۱- طَافَ ـ طَوْفًا و طَوَافًا و طَوَفَانًا بالمكان و حولَه: کسی جگہ کے چاروں طرف یا ارد گرد گھومنا، چکر لگانا- في البلاد: ملک میں پھرنا- ــــ طَوْفًا به الخيالُ: کو خواب میں کوئی وہمی صورت نظر آنا- طَوَّفَ تَطْوِيفًا و تطوافًا: کے گرد چکر لگانا- ــ في البلاد: ملک میں پھرنا- بالشيء و حولَه: کے گرد بہت چکر لگانا- الناسُ او الجرادُ: آدمیوں یا ٹڈیوں کا زمین کو بھر دینا- أَطَافَ بالشيء: پر نازل ہونا، کا احاطہ کرنا، کے قریب ہونا- به: کے پاس رات کو آنا- عليه: کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پاس رات کو آنا، کے گرد چکر لگانا۔ تَطَوَّف بالشیء و حولہ: کے گرد بہت چکر لگانا۔ اسْتَطَافَ اسْتِطَافَةً ہُ: کے گرد چکر لگانا۔ ۔ بالشيء وحولَه: کے گرد بہت چکر لگانا۔ الطَوْفُ: پانی پر تیرنے والی چیز، پھولی ہوئی مشکوں یا شہتیروں کو جوڑ کر سواری یا بار برداری کے لئے بنائی ہوئی کشتی ۔۔ ج أَطْوَاف: رات کو پہرہ دینے والے چوکیدار دیوار۔ الاطواف الضرفية (ا ع): ربڑ کی بنی ہوئی برتنوں کی شکل کی تیرنے والی اشیاء۔ الطَّاف: بہت طواف کرنے والا، بہت چکر لگانے والا۔ الطُوْفَان: سخت بارش، سخت سیلاب، رات کا سخت اندھیرا، تباہ کن موت۔ من كل شَيء: ہر ایک چیز کا زیادہ۔ الطَائِف (فا): چوکیدار۔ الطائفة جمع طائفات وطَوَائف: الطَائف: کا مونث۔ الطَوَّاف: بہت چکر لگانے والا بہت پھرنے والا، خادم، مشکوں یا شہتیروں کو جوڑ کر بنائی ہوئی کشتی کا مالک۔ ایسی کشتی بنانے والا۔ الطَوَّافَة: فلوٹ لائٹ Float light۔ المَطَاف: چکر لگانے کی جگہ۔

۲۔ الطائفة جمع طَائِفَات و طَوَائِف: گروہ، ٹکڑا، ہم رائے ہم مسلک لوگ۔

○ طَافَ ۔ طَوْفًا و طُوَافًا و طَوَفَانًا: کے اردگرد جانا، چلنا، سفر کرنا، حرکت کرنا، پھرنا، ادھر ادھر پھرنا، مارے مارے پھرنا، کے چاروں طرف دوڑنا، کی سیاحت کرنا۔ ب / حول: کے اردگرد یا چاروں طرف جانا، چلنا، دوڑنا اور سفر کرنا۔ علی: لوگوں میں آنا جانا۔ ب / حول: کے گرد پھرنا، گھومنا۔ ب: کو ادھر ادھر پھرانا، کی رہنمائی کرنا، کو مختلف جگہیں دکھانا۔ ۔ ب: سے آگاہ ہونا، کو جاننا۔ طاف طوفًا ب: کے خواب میں نظر آنا۔ علی: پر ٹوٹ پڑنا، اچانک حملہ آور ہونا، کو ایذا دینا، تکلیف میں ڈالنا، دکھ پہنچانا ۔۔ دریا کا اپنے کناروں کے اوپر سے بہنا۔ طَوَّفَ فی: میں ادھر ادھر جانا، چلنا، ٹہلنا، سیر کرنا، سفر کرنا، سیاحت کرنا ۔۔ ب: کے چاروں طرف جانا یا چلنا۔ ہ / ب: کو مختلف مقامات دکھانا، کی راہنمائی کرنا۔ طَوَّافة: گشتی کشتی (patrol Boat) آل (انْتَهَى) بِهِ المطاف: پر منتہی ہونا، ختم ہونا، انجام کار پر پہنچنا۔ خاتمة المطاف: کا نتیجہ۔ طاف به طَائف: کو فوز اتر نگ یا تحریک ہوئی یا خواہش ہوئی۔ طاف علیه طائف من القدر القاسی. المیہ اس پر آ پڑا۔ الطَائِف. (سعودی عرب کا ایک شہر) مُلوكُ الطوائف. چھوٹے چھوٹے بادشاہ۔ طائفی: جتھابندی کا، فرقہ وارانہ۔ طَائِفِيَة: فرقہ واریت۔ مُطَوِّف: مکہ معظمہ میں حاجیوں کا گائڈ۔

طاق: ا۔ طَاقَ ۔ طَوْقًا و طَاقَةً الشیءَ: پر قادر ہونا۔ طَوَّقَ ہُ الشَیءَ: کو کسی کام کی تکلیف دینا۔ أَطَاق الشیءَ: پر قادر ہونا۔ علی الشیء: پر قادر ہونا۔ الطاقة: قدرت، طاقت (کہا جاتا ہے۔ لا تُحَمِّلْنَا مالا طاقة لنابه: ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کا اٹھانا ہم پر دشوار ہو) دھاگے کی ایک لڑی، بالوں کا گچھا، پھولوں کا گلدستہ۔ الطاقة الكهربائية: برقی قوت کسی جسم کی طاقت یعنی کام جسے جسم کر سکے۔ الطَوْق: قدرت، طاقت کہا جاتا ہے۔ هذا فی طوقی: یہ میری وسعت میں ہے۔

۲۔ طَوَّقَ ہُ الطَوْقَ: کو طوق پہنانا، کہا جاتا ہے۔ طَوَّقَهُ بالسیف وغیرہ: اس نے اسے تلوار وغیرہ باندھ دی۔ تَطَوَّقَ: طوق پہننا۔ ت الحَيَّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ اِطَّوَّقَ: طوق پہننا۔ الطَاق جمع طاقات و طِيقان: محراب، طاقچہ (فارسی لفظ) الطاقة: دیوار میں بنی ہوئی کھڑکی (عام زبان میں) طَائِقُ كل شیءٍ: گھیرا۔ الطَوْق جمع أَطْوَاق: گلے کا ایک زیور، گردن۔ المُطَوَّقَة: کنٹھی دار کبوتر، بڑی بوتل جس کی گردن طوق دار ہو۔

۳۔ الطاق: ایک قسم کا کرتہ۔ والطائِق: پہاڑ کی نکلی ہوئی چٹان۔

○ طاق ۔ طَوْقًا ہ: کچھ کرنے کے قابل ہونا، کچھ کر سکنا، کو برداشت کرنے یا کا سامنا کرنے کی استطاعت رکھنا، کو برداشت کرنا۔ طَوَّقَ ہ: کی گردن میں ہار ڈالنا، طوق ڈالنا۔ ہ: کو کڑا ڈالنا۔ ہ / ہ ب: کو سے گھیرنا، کو آنکڑا لگانا، کے گرد کا حلقہ ڈالنا۔ طوّقه بذراعیه: کو اپنے بازوؤں میں لینا، گلے لگانا، سے معانقہ کرنا۔ طوق عنقه ب: کو کا تحفہ دینا، کو کچھ عطا کرنا۔ لم يُطِقْ صبرا: وہ اسے برداشت نہ کر سکا، وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ شیءٌ لایطاق: ناقابل برداشت چیز۔ طوقٌ للنجاة: بچاؤ پہیہ۔ اخرجه الحُزْنُ عن طوقِه: دکھ نے اسے بیخود کر دیا۔ فی الطاقة: ممکن ہے۔ قدرَ الطاقة: جہاں تک ممکن ہے، ممکن حد تک بہترین طریقہ سے۔ علی قدر طاقته: اسکی قابلیت کے مطابق، مقدور بھر۔ طاقةٌ مُدَّخَرَةٌ: جمع شدہ توانائی۔ الطاقة الذَرِّيَّة: ایٹمی توانائی۔ طاقةٌ انتاجية: پیداواری طاقت، وسعت، گنجائش، پیداوار کی صلاحیت۔ مُطَاق: قابل برداشت۔ طوكيو: جاپان کا ایک شہر۔

طال: ا۔ طَالَ ۔ طُولًا: دراز ہونا، لمبا ہونا۔ طَوَّلَ ہ: کو لمبا کرنا [illegible] جانور کی رسی ڈھیلی کر دینا۔ طَاوَلَ مُطَاوَلَةً ہُ: پر لمبائی میں غالب آنا، سے زیادہ لمبا ہونا، کو ٹال مٹول کرنا۔ أَطَال اطَالَةً ہُ: کو لمبا کرنا۔ ت المرأةُ: عورت کا دراز قامت بچے جننا۔ أَطْوَلَ اِطْوَالًا ہُ: کو لمبا کرنا۔ تَطَاوَلَ: لمبائی ظاہر کرنا، دور کی چیز دیکھنے کے لئے کھڑے کھڑے گردن بلند کرنا۔ علیه العمرُ: کی عمر بڑھنا۔ اسْتَطَال اسْتِطَالَةً: لمبا ہونا۔ الطُول (مص) جمع أَطْوَال: اونچائی درازی، (کوتاہی کی ضد) لمبائی (چوڑائی کے مقابلہ میں) طُولُ مكان ما من الارض (فلك): طول البلد، خط طول البلد۔ الطول السماوی: خط نصف النہار (سورج یا ستارے کا) عروج، نقطہ اعتدال ربیعی۔ الطِوَل والطَوَل والطِيل والطِيَال: لمبا عرصہ، زمانہ کی لمبائی کہا جاتا ہے۔ لا افعله طَوَال الدهر: میں یہ زندگی بھر نہیں کروں گا۔ الطُوَّل (ح): لمبی ٹانگوں کا ایک آبی پرندہ۔ الطُوَال م طُوَالة: لمبا، دراز۔ الطَوَّال: بہت لمبا۔ الطَوِيل جمع طِوَال و طِيَال م طَوِيلَة جمع طَوِيلَات: لمبا کہا جاتا ہے۔ فلانٌ طويل الباع: فلاں سخی ہے۔ هو قصير الباع: وہ بخیل ہے۔ الطِيلَة: عمر (کہا جاتا ہے۔ أَطَال اللّٰه طيلتَهُ: اللہ اس کی عمر دراز کرے) زمانہ کی لمبائی۔ الأَطْوَل: جمع أَطَاوِل م طُوْلَى جمع طُوَل: اسم تفضیل، زیادہ لمبا، لمبا ترین۔ السَبْعُ الطُوَل: قرآن کریم کی سات بڑی سورتیں۔ الطَاوِلَة: چوبی میز (اٹلی کا لفظ) المِطْوَل جمع مَطَاوِل: رسی، لگام۔

۲۔ طَالَ ۔ طُولًا علیه: پر غالب ہونا، فخر کرنا، پر احسان کرنا۔ طَاوَلَ مُطَاوَلَةً ہُ: پر فضل و احسان میں غالب آنا۔ تَطَوَّلَ تَطَوُّلًا علیه: پر احسان کرنا۔ تَطَاوَلَ: تکبر کرنا، فخر کرنا، ظلم کرنا۔ تَطَاوَلًا: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، باہم مقابلہ کرنا۔ اسْتَطَال اسْتَطَالَةً: تکبر کرنا۔ ۔ علیه: پر فضل و احسان کرنا۔ علی عِرضه: کسی کا عیب مشہور کرنا، اسے رسوا کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ استطالوا علی القوم: لوگوں کو اس سے زیادہ قتل کرنا جتنا انہوں نے قتل کیا تھا۔ الطَوْل: قدرت، غنا، فضل، بخشش۔ الطَائِل و الطَائِلة جمع طَوَائِل: قدرت، غنا، فضل کہا جاتا ہے۔ هذا امرٌ لا طائِل فیه: اس کام میں کوئی منفعت نہیں۔ ماهو بطائِلٍ اوهو غيرُ طَائِل: وہ برتر نہیں یا وہ گھٹیا ہے۔ (مذکر و مونث) کہا جاتا ہے۔ بينهم طائِلة: ان کے درمیان دشمنی ہے۔ الطُولَى: بلند مرتبہ۔ یا حالت۔ [illegible] طال به الزمن حتى: ایسا کرنے میں بہت عرصہ لگا۔

marifat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

یطولُ بی هذا :یہ میرا بہت وقت لے گا۔ طَالَ الزمانُ او قصر :کبھی نہ کبھی، دیر سویر، جلد یا بدیر، جلد ہی۔ طَوَّل بالهُ علیه :کو برداشت کرنا۔ أَطَالَ علیه :کو بہت انتظار کرانا۔ اَطَال لسانه :گفتگو میں شوخ ہونا، گستاخ ہونا۔ اَطَالَ النظر اِلَیْهِ :کو گھورتا رہنا، تکتا رہنا، کو ٹکٹکی باندھے کے دیکھتے رہنا۔ أطال الوقوف :لمبا عرصہ قیام کرنا۔ استطال علی :کی جانب متکبرانہ رویہ کا اظہار کرنا۔ طَالَمَا و لَطالما :اکثر۔ طَالَما أَنَّ :حالانکہ۔ طالما :جب تک So long as , as long as طالما فعل کذا :اس نے بہت عرصہ یہ کام کیا۔ صاحب الحول و الطَوْل :اللہ تعالیٰ۔ طُول الأَنَاة :صبر سے برداشت کرنا، برداشت، صبر۔ طُولُ النظر :بعید النظری۔ خط الطول :خط طول البلد۔ طول البلد کا درجہ۔ خط نصف النہار۔ بالطول وطولاً :لمبان میں۔ طُولَ :کے دوران، کے ہر حصہ میں (میں) ہر جگہ، ایک سرے سے دوسرے سرے تک، سراسر۔ طُولَ هذه المدة :اس عرصہ کے دوران، اس تمام عرصہ کے دوران۔ طُولَ النهار :دن بھر۔ طُولَ ما :جب تک۔ علی طول :کے کنارے کے ساتھ، کے شانہ بشانہ (کے) پہلو بہ پہلو۔ علی طُول :سیدھا آگے، براہ راست، آخر کار، انجام کار، بالآخر، بہر حال، بہر صورت۔ فی طول البلادِ و عَرضها :ملک بھر میں، تمام ملک میں۔ انا فی طولِكَ :مجھ پر رحم کیجئے۔ خط طُولی :خط طول البلد، طول البلد کا درجہ، نصف النہار۔ طَوَالَ :کے دوران، کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، کے کنارے کے ساتھ ساتھ۔ طویلاً :دیر تک، تادیر۔ طویلُ الاجل :طویل مدت کا۔ طویلُ الاناة :صبر سے برداشت کرنے والا، صابر۔ طویلُ الباع :طاقت ور، قابل، لائق، سخی، فراخ دل، فیاض، روادار، بے تعصب۔ طویل الروح :صابر، برداشت کرنے والا۔ طویل القامة :دراز قد۔ طویل اللسان :گستاخ، شوخ، اپنے کئے پر نادم نہ ہونے والا۔ طِیلَةَ :کے دوران، کے ہر حصہ میں، میں ہر جگہ۔ طائِل الصَولَة :طاقت ور، قوی، زوردار۔ دونَ طَائِل اور لاطائِلَ تحته (یا) فیه :بے فائدہ، فضول، بے کار۔ ما فاز بطائل :کچھ نہ کرنا، ناکام ہونا۔ وقَعَ تحت طائِلة القانون :قانون کے ذریعے سزا کا مستوجب ہونا۔ تحتَ طائلةِ الموت :زیر سزائے موت، under penalty of Death مُطَوَّل :مفصل، جامع، تفصیلی، قرائی۔ مُتَطَاوِل :طول طویل، طول پکڑ

جانے والا، بہت وسعت دیا جانے والا۔ مُستطیل :لمبا، مستطیل، دیدہ دلیر، شوخ چشم۔ طُولکرم :شمال مغربی اردن کا ایک شہر۔ طومار جمع طوامیر :لپٹا ہوا کاغذ، کاغذوں کی ریل طومار۔

طوی: ۱۔ طَوَی ـِ طَيًّا الثوبَ :کپڑا لپٹنا۔ ـــ اللّٰهُ عمرَه: اللہ کا کسی کو موت دینا کہا جاتا ہے: طُوِیَ فلانٌ وهو منشورٌ :جب کسی کا اچھا نام اور ذکر حسن باقی رہے۔ البلادَ :ملک طے کرنا ـــ البئرَ :پتھروں سے کنواں بنانا۔ تَطَوَّتِ الحيَّةُ :سانپ کا کنڈلی مارنا۔ انْطَوَی :لپیٹا جانا ـــ القومُ علیه :کے گرد جمع ہونا۔ إِطَّوَی :لپیٹا جانا۔ الطُّوَی و الطِوَی :لپٹی ہوئی چیز۔ الطَوَی :مشک ـــ الطِيَّة :لپٹنے کی شکل، گوشہ، طرف کہا جاتا ہے۔ لقیتهُ بِطِيَّاتِ العراق :میں عراق کے نواح اور اطراف میں اس سے ملا۔ الطَوِیّ جمع أَطْوَاء :گیہوں کی لوری، رات کا ایک پہر، رات کی ایک گھڑی ـــ و الطَوِيَّة :پتھروں سے بنا ہوا کنواں۔ الأَطْوَاء :(واحد طَوًی) ٹڈی کی دم کا بل یا پیچ۔ المَطْوَی جمع مطاوی الامعاء او الحیة او الثوب کا واحد :آنتوں کا بل، سانپ کی کنڈلی یا کپڑے کا پیچ۔ اُستعارا :(عام زبان میں) المِطْوَی :جس پر کتا ہوا سوت لپیٹا جائے۔

۲۔ طَوَی ـِ طَيًّا كَشْحَهُ علی الامر :کوئی بات چھپانا کہا جاتا ہے: طوی کشحه عنی :اس نے مجھ سے پہلو تہی کی، مجھ سے منہ پھیر لیا ـــ الحدیثَ :بات چھپانا۔ الطَّيّ (مص): طَيِّ الشیء :ضمن لپیٹ کہا جاتا ہے۔ الغَیّ فی طی قلبه :گمراہی اس کے دل کے اندر ہے۔ الطِيَّة :ضرورت، غرض، مقصد، حاجت، ضمیر، نیت کہا جاتا ہے۔ فلانٌ حسنُ الطوية :فلاں شخص اچھی نیت اور ضمیر والا ہے۔ مَضَی لِطِيَّتِهِ :وہ اپنی نیت پر کار بند ہوا۔

۳۔ طَوَی ـِ طَيًّا الرجُلُ :بھوکا رہنے کا ارادہ کرنا ـــ السیرُ فلانًا: سفر کا کسی کو کمزور کر دینا۔ طَوِیَ ـَ طَوًی و أَطْوَی: بھوکا ہونا صفت طَيَّان و طَوٍ و طَاوٍ م طَيَا و طَوِیَة و طَاوِیة الطَوَی :بھوک۔ طاوی البطن :پتلے پیٹ والا۔

۵۔ الطَايَة جمع طَايَات :سطح، چھت۔ الطِوَایة :فرائی پان (Frying pan)

○ طَوَی ـِ طَيًّا (ہ) کو تہ کرنا، لپیٹنا۔ ہ :(کتاب) بند کرنا۔ ہ :کو صیغہ راز میں رکھنا، چھپانا ـــ ہ :پر مشتمل ہونا -- ہُ :(رات کی تاریکی کا) کسی کو چھپا لینا، نگل لینا -- ہ : ماضی کو دفن کرنا، آخر کار فیصلہ کرنا۔ ہ :

(ملک میں سے) گزرنا یا کے پار جانا (کے) مشرق سے مغرب تک سفر کرنا، کو قطع کرنا۔ ہ الی :جلدی سے (راستہ، فاصلہ) طے کر کے (کھلی جگہ یا شخص کے پاس) جانا -- ہ (عرصہ) گزارنا۔ ہ :کا قبضہ لینا، کو لے لینا۔ طوی الارض طيًّا :زمین میں تیزی سے گزرنا۔ طوی بساطَهُ :ختم ہو جانا۔ طوی البساط بما فیه :کسی معاملہ کا ہمیشہ کے لئے فیصلہ کر دینا۔ طوی جوانِحَهُ علی :اپنے دل میں کچھ چھپانا۔ طوی كَشْحَهُ (كَشْحًا) علی اور طوی صدره علی :کو صیغہ راز میں رکھنا، سینے میں چھپا لینا۔ طوی صفحتَهُ :کچھ ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ طوی الطریق الی :کی طرف تیزی سے جانا۔ طوی الماضی طی السجل للکاتب :ماضی سے ناطہ توڑنا، گزشتہ را صلوات کہنا۔ انطوی علی نفسه :خود کو اپنے آپ میں مگن کرنا۔ طيَّهُ و طَيَّ هذا :اس کے ساتھ نتھی یا ملفوف ہے۔ فی طیّ الغیب :پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر، تحتَ۔ (فی) طی الكِتمَان :صیغہ راز میں۔ فی أطواء :میں حَملَ بین طَيَّاته :پر مشتمل ہونا۔ مضی (ذهب) لِطِيَّتِهِ :وہ منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا، وہ اپنے راستہ پر چلا گیا، وہ روانہ ہوا تا کہ وہ کام کرے جو دل میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ علی الطَوَیَ :خالی پیٹ، کچھ کھائے بغیر۔ سلیم الطَوِيَّة :بھولا بھالا، بے ریا، سیدھا سادھا۔ سادہ لوح۔ فی طوایا :کے اندر، میں۔ طَوَّایة :فرائی پان۔ جمع طوّایات۔ مَطوًی جمع مَطَاوٍ :جیب کا چاقو، قلم گھڑنے والا چاقو، قلم تراش۔ جمع مطاوی :تہیں، شکنیں۔ فی مَطاوِی :کے اندر، میں۔ فی مطاویه :دلی طور پر، دل میں۔ مِطْوَاة :جیب کا چاقو، قلمیں گھڑنے والا چاقو۔ قلم تراش۔ طاوٍ :بھوکا۔ طاوی البطن : بھوکا، کمزور مضمحل۔ مَطْوِيّ :لپٹا ہوا، تہ کیا ہوا۔ مَطْوِی علی :پر مشتمل۔ مَطْوِيُّ الضلوع علی :کچھ دل میں رکھے ہوئے۔ مُنْطَوٍ علی نفسه :اپنے آپ میں منہمک، مستغرق، افسردہ دل، غمزدہ۔

طاب: ۱۔ طَابَ ـِ طِيبًا و طَابًا و طِيبَةً و تَطْيَابًا :مزیدار، میٹھا، عمدہ اور اچھا ہونا ـــ الشیءَ :کو اچھا بنانا یا پانا۔ ت النفس بکذا :سے دل کا خوش ہونا۔ عیشُهُ : خوش گزران ہونا۔ ت الارضُ :زمین کا گھاس اگانا۔ طَيَّبَ خاطرَهُ : کے دل کو تسلی دینا، مطمئن کرنا۔ الشیءَ :کو اچھا بنانا یا پانا، کو خوشبو لگانا۔ طَایَبَ مُطَايَبَةً ہُ :سے مذاق کرنا، کھیلنا وغیرہ۔ أطَابَ اطابَةً :اچھی اور شیریں گفتگو کرنا -- الشیءَ :کو اچھا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا۔أَطْيَبَ اطيابًا الشيء: کواچھا پانا۔تَطَيَّبَ بالطِيب: اپنے آپ کو خوشبو لگانا۔اِسْتَطَابَ اسْتَطَابَةً القومَ: سے میٹھا پانی مانگنا۔وِ اِسْتَطْيَبَ اِسْتِطْيَابًا الشيءَ: کو اچھا پانا۔الطَاب (مص): اچھا، لذیذ، مزیدار۔الطَابَة: شراب۔الأَطْيَب جمع أَطَايِب م طُوبَى جمع طُوبيات. اسم تفضیل زیادہ لذیذ، زیادہ میٹھا وغیرہ۔الأَطَايِب من الشيء: نہایت عمدہ اشیاء۔الطُوبَى: رشک، سعادت، خیر، خوشی کہا جاتا ہے۔طُوبَى لك: خوش رہو، خوش نصیب ہو۔طُوبَاك: خوش رہو، خوش نصیب ہو۔الطِيب (مص): بہترین چیز، حلال کہا جاتا ہے۔هذا طِيبٌ لك: یہ تمہارے لئے حلال ہے۔جمع أَطْيَاب و طُيُوب: خوشبودار اشیاء۔الطِيبَة (مص): حلال۔طِيبَةُ الخمر: صاف شراب، کہا جاتا ہے۔فعلت ذلك بطيبةٍ: یہ میں نے اپنی خوشی سے کیا۔الطُيَّاب: بہت پاکیزہ۔الطَيِّب م طَيِّبَةً جمع طَيِّبَات و طُوبَى: پاکیزہ، اچھا، حلال کہا جاتا ہے۔کلمةٌ طَيِّبَةٌ: اچھی بات۔بلدة طَيِّبَة: پرامن اور بڑی برکتوں والا شہر۔المَطَايِب من الشيء: بہترین چیزیں۔شرابٌ مَطْيَبَة: خوشگوار مشروب۔

۲۔طَابَ ـِ طِيبا و طَابًا و طِيبَةً و تَطْيَابًا عن الشيء نفسًا: کو خوشی سے چھوڑ دینا۔

۳۔الطَابَة: چمڑے یا ربڑ کی گیند (ترکی لفظ) الطابية عند الموازنة: پادری کی ٹوپی۔

○ طَابَ ـِ طِيبًا و طِيبَةً: اچھا ہونا، خوشگوار ہونا، خوشکن ہونا، مسرت بخش، راحت بخش ہونا یا ہوجانا، لذیذ ہونا یا ہوجانا۔لِ: کو پسند آنا، کو بہت اچھا لگنا، کی پسند کا ہونا۔— پکنا، پکا ہونا یا پک جانا، دوبارہ صحت مند ہو جانا۔طابت ليلتكم: تمہاری رات خوشگوار ہو۔گذ نائٹ۔طابت نفسه: خوش ہونا، خوشی محسوس کرنا، خوش باش ہونا۔طاب نفسًا عن: کو خوشی سے ترک کر دینا۔طابت نفسهُ اليه: کو پسند کرنا، کے ذوق کے مطابق ہونا۔طَيَّبَ خاطرَه: کو تسلی دینا، کا غصہ ٹھنڈا کرنا، منانا، راضی کرنا۔طَيَّبَ اللّٰه ثراهُ: اللہ اسکی زمین کو ہلکا کرے۔طِيبُ العِرق: عالی خاندان۔جوز الطِيب: جائفل۔طَيِّبُ الخُلق: نیک طبیعت، ملنسار، خوش مزاج۔طَيِّبُ الرائحة: خوشبو دار۔طَيِّبُ العرق: عالی خاندان کا۔طَيِّبُ النفس: خوش، زندہ دل، ہنس مکھ۔طَيِّبَات: عمدہ خوشگوار چیزیں۔عن طِيبَةِ خاطر: خوشی سے۔طِيَاب: شمالی ہوا۔طَيَّاب: مالشیا، مالش کرنے والا۔مطَايِب: آسائشیں، زندگی کے مزے۔مُطَايَبَة جمع مُطَايبات: چھیڑ چھاڑ، دل لگی، مذاق، ہنسی، دق کرنے والی باتیں۔طائب لِ: کے لئے ناقابل اعتراض۔مُطَيِّب: گل دستہ۔

طاح: طَاحَ ـِ طَيْحًا: گمراہ ہونا، تباہ ہونا، سرگرداں ہونا۔طَيَّحَ هُ: کو ہلاک کرنا۔الشيءَ: کو ضائع کرنا۔أَطَاحَ هُ: کو ہلاک کرنا۔تَطَايَحَ الشيءُ: بکھرنا۔الطَيْحَة: اسم مرۃ تباہی کہا جاتا ہے۔أَصابتهم طَيْحَةٌ: ان کو ایسے امور پیش آئے جنہوں نے ان میں تفریق پیدا کر دی۔طَوَّحَتْهُم طَيْحات: افسوسناک حوادث نے انہیں ہلاک کر دیا۔

طاخ: ۱۔طَاخَ ـِ طَيْخًا: گندا ہونا، برائی سے آلود ہونا، باطل میں منہمک ہونا۔الامرَ: کام خراب کرنا۔— هُ: کو برائی سے آلودہ کرنا۔طَيَّخَ أَصْحَابَه: کو گالی دینا۔— ہ: کو قبیح بات میں آلودہ کرنا۔تَطَيَّخَ: برائی سے آلودہ ہونا۔الطَيْخَة: فتنہ۔

۲۔طَاخَ ـِ طَيخًا: تکبر کرنا۔

۳۔الطَيْخَةُ والطَائِخ والطَيَّاخ: بے وقوف، بے برکت۔

طار: ۱۔طَارَ ـ طَيْرًا وطَيَرَانًا و طَيْرُورَةً: ہلکا ہونا، تیز رفتار ہونا۔الطائِرُ: پرندہ کا ہوا میں اڑنا۔بكذا: کچھ کرنے میں جلدی کرنا، سابق ہونا۔— اِلى كذا: کی طرف دوڑنا کہا جاتا ہے۔طَارَ طِائِرُه: غضبناک ہونا، طیش میں آنا۔طَيَّرَ نَومَهُ: کی نیند اڑا دینا۔— ہ و طَيَّرَ به: کو اڑانا۔طَايَرَ مُطَايَرَةً و أَطَارَ اطارةً هُ: کو اڑانا۔تَطَيَّرَ واطَّيَّرَ بالشيء ومنه: سے بدفال لینا، برا شگون لینا۔اسْتَطَارَ اسْتَطَارَةً الطيرَ: پرندہ اڑانا۔السيفَ: جلدی سے تلوار نکالنا۔اُسْتَطِيرَ: جلدی سے لے جایا جانا، گویا پرندے اسے اٹھائے ہوئے ہوں۔خوف زدہ ہونا۔الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔الطائِر (فا): جمع طَير و طُيُور و أَطْيَار: پرندہ کہا جاتا: هو ميمون الطائر: وہ مبارک چہرے والا ہے۔سِر على الطائِر الميمُون: مبارک شگون پر چل (مسافر کے لئے دعا) ساكِنُ الطائِر: بردبار، متحمل، سنجیدہ، آدمی۔طَارَ طائِرُ فلانٍ: غضبناک ہونا، یا جلدی کرنا۔الطائر: جس سے نیک یا بدشگون لیا جائے، قسمت، انسان کا رزق۔الطائِرة جمع طائِرات: ہوائی جہاز۔طائرة الطِّراد: دشمن کا تعاقب کرنے والا ہوائی جہاز۔الطائِرةُ النفّاثة: جٹ طیارہ (Get plane) الطائرة النافورية: تیز رفتار طیارہ۔الطائرة القانصة: ہنٹر طیارہ۔طائرة الانقضاض: غوطہ زن طیارہ۔الطائِرة: بڑا بمبار طیارہ۔الطَيْر (مص): (طائر کی جمع مگر کبھی ایک کے لئے بھی آتا ہے) کہا جاتا ہے۔كانَ على رؤوسهم الطيرَ: وہ دم بخود ہیں جیسے ان کے سر پر کوئی پرندہ ہو۔اُزْجُر احناءَ طيرك: اپنی خفت اور غصہ کو دور کر۔لا طيرَ اِلا طيرُ اللّٰه جیسے کہا جاتا ہے لا امرَ الا امرُ اللّٰه و طيرُ اللّٰه لا طيرُك جیسے کہا جاتا ہے صباحُ اللّٰه لا صباحك۔التَطَيّرَ کا اسم۔الطِيَرَة و الطِيْرَة: بدفالی لینے کی چیز۔الطَيْرَة والطَيْرُورَة: طیش، ہلکاپن کہا جاتا ہے۔اياك و طيرات الشباب: جوانی کے طیش سے بچ۔الطيران (فص): اڑان، ہوابازی۔الحربي: جنگی ہوابازی۔المدني: شہری ہوابازی۔مصلحة الطيران: ہوابازی کا محکمہ۔الطُوَيْر: طیر کا مصغر۔الطَيَّار جمع طَيَّارُون: ہواباز، پائلٹ۔من الخيل: چست اور تیز خاطر گھوڑا۔الطَيَّارة: طیار کا مونث، ہوائی جہاز۔المُطَار من الخيل: چست چالاک اور تیز خاطر گھوڑا۔المَطَار: اڑنے کی جگہ، ہوائی اڈا۔ارضٌ مَطَارة: بہت پرندوں والی جگہ۔

۲۔طَارَ ـِ طَيرًا و طَيَرَانًا و طَيْرُورَةً صِيتُهُ: کی شہرت پھیلنا۔طَيَّرَ و أَطَارَ المالَ: مال تقسیم کرنا۔تَطَايَرَ: متفرق ہونا۔السحابُ في السماء: بادل کا آسمان میں سب طرف پھیل جانا۔انْطَارَ الشيءُ: چیز کا پھٹنا۔اسْتَطَارَ اسْتِطَارَةً الشيءُ: متفرق ہونا، منتشر ہونا۔— الحائطُ: دیوار کا پھٹنا، تڑخنا، دیوار میں دراڑ پڑنا۔اُسْتُطِير الصَدْعُ في الحائط: دیوار میں دراڑ کا ظاہر ہونا۔الطَيَّار: منتشر۔المُطَيَّر (مفع): پھٹا ہوا ٹوٹا ہوا۔المُسْتَطِير (فا): چمک دار اور پھیلا ہوا کہا جاتا ہے۔صبحٌ مُسْتَطِير: چمک دار اور پھیلی ہوئی صبح، اسی طرح بجلی، بڑھاپا اور برائی۔

۳۔طَارَ ـ طَيرًا طَيَرَانًا و طَيْرُورَةَ الشعرُ: بالوں کا دراز و لمبا ہونا۔تَطَايَرَ الشيءُ: چیز کا لمبا ہونا۔

۴۔الطائِر (فلك): ستارہ، دماغ۔الطَيَّار: ترازو کی زبان، روپے تولنے کی ترازو۔المُطَيَّر: ایک قسم کی چادر۔

○ طار الى: کی طرف تیزی سے جانا، جلدی جانا، پرواز کرنا (ہوائی جہاز میں کسی جگہ جانا) طار بِخيالِه اِلى: اپنے تصور کو تک بھٹکنے دینا۔طار له صيت في الناس: اسکی شہرت لوگوں میں پھیل گئی، وہ مشہور و معروف ہوگیا۔طار طائرُهُ: غصہ ہوجانا۔طار عقلُهُ: پاگل ہوجانا، بھوکھلا جانا۔طار فؤاده (روحه) شعاعا: اس کا دل پریشان ہوگیا، گھبرا گیا۔طار فرحًا: بہت

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خوش ہونا۔ طار بلُبِّہِ :کو پاگل کر دینا۔ طار بصوابہ : کو بیہوش کر دینا۔ طَیَّر راسہ :کا سر قلم کر دینا، کا سر اڑا دینا۔ اُسْتُطِیرَ :خوفزدہ ہونا۔ اُسْتُطِیرَ عَقْلُہُ : (حیرت یا خوف سے) کوئی بات ذہن سے نکل جانا۔ طَیْر :(اسم جنس) جمع طُیُوْر و اَطْیَار :پرندے، پرندہ، شگون، فال۔ طُیُوْر :مرغیاں بطخیں وغیرہ۔ طیور جارحة: غارت گر یا شکاری پرندے۔ علم الطیور: پرندوں کا علم۔ کَاَنَّ علی رؤوسھم الطیرَ: رعب سے بے حس وحرکت یا خاموش۔ زیوت طیارہ: اڑ جانے والے تیل۔ طیّار :اڑنے والا، ہوا باز، پائلٹ جمع طیارون۔ طیار اول :ہوائی فوج کا فرسٹ لیفٹیننٹ۔ طیّار تان :ہوائی فوج کا سیکنڈ لیفٹیننٹ۔ طَیَّارَہ :عورت پائلٹ، ہوائی جہاز، پتنگ۔ طیّارة ریاضیة :تفریحی ہوائی جہاز۔ طیّارة قذافة: بمبار طیارہ۔ طیارہ مائیة :بحری ہوائی جہاز۔ طَیَرَان: اڑان، پرواز، ہوا بازی، طیرانیات۔ طیران بَھْلَوَانِی : خاص کرتب کی پرواز۔ طیران شِراعی :بے انجن پرواز۔ خطُوطُ الطَیران :ادارہ طیران۔ سِلاحُ الطیران :ہوائی فوج۔ مَطَار جمع مطارات :ہوائی اڈا۔ مطار عائم :طیارہ بردار۔ مَطِیر :ہوائی اڈا۔ تَطَیُّر : یاسی، قنوطیت۔ طائر :اڑنے والا، اڑانے والا، ہوا باز، پائلٹ، جمع طائِرات و طَیر :پرندہ، شگون، بری فال۔ سکُونُ الطَائر :سنجیدگی، سنگینی، متانت۔ طَائِرہ جمع طائرات :ہوائی جہاز۔ علی متن الطائرہ :طیارے میں، بذریعہ طیارہ۔ طائرہ بحریة: بحری ہوائی جہاز۔ طائرة دَورِیّة :دیکھ بھال کرنے والا ہوائی جہاز۔ طائرة المطاردة :لڑاکا، تعاقب کرنے والا، راستہ روکنے والا ہوائی جہاز۔ طائرة عَمُودِیّة :ہیلی کاپٹر۔ طائرة القتال :ہلکا بمبار، لڑاکا طیارہ۔ طائرة المُقَاتَلَة :لڑاکا ہوئی جہاز۔ طائرة انقضاضیة :غوطہ زن بمبار ہوائی جہاز۔ طائِرہ نفاثة :جیٹ طیارہ۔ طائرة النقل :بار بردار ہوائی جہاز۔ حاملةُ الطائرات اور ناقلة الطائرات :طیارہ بردار جہاز۔ مُتَطَیِّر :قنوطی۔ مُسْتَطِیر : قریب نزدیک سر پر کھڑا، آنے ہی والا، خطرہ کی اطلاع دینے والا، بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، قنوطی۔

طاس: طَاسَ ـِ طَیْساً الشیءُ :زیادہ ہونا، بہت ہونا۔ الطَیْس :بڑی تعداد، مٹی، ہر ایک زیادہ نسل کی چیز، جیسے مچھلی، چیونٹی۔

طاش: طَاش ـِ طَیْشًا: اوچھا ہونا، سبک سر ہونا، بے عقل ہونا، عقل کھونا۔ السھمُ عن الغرض :تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ صفت طَائِش۔ أطَاش اِطَاشَةً السھمَ عن الغرض :تیر کا نشانہ سے خطا کرا دینا۔ الطَیَّاش و الطائش : جو عقل کی کمزوری کی وجہ سے ایک طریقے پر نہ ٹکے۔ الطَیْشان :ہلکا پن، اوچھا پن۔

○ طَاشَ ـِ طَیَشاً و طَیَشانًا :متلون ہونا، بے ثبات ہونا، ناپائیدار ہونا، بے پروا اور غافل ہونا، غیر سنجیدہ ہونا، غیر محتاط ہونا، مذبذب ہونا، پریشان ہونا، بوکھلانا، بے مقصد ہونا (تیر کا) نشانہ سے چوکنا۔ عن الغرص (کے ساتھ بھی اس معنی میں) عن :(ہاتھ کا) کسی جگہ پر نہ لگ سکنا۔ طاش سھمُہ :ناکام ہونا۔ طاش صوابُہ: گھبرا جانا، حواس قائم نہ رہنا۔

طاع: طَاعَ ـِ طَیْعًا :دیکھو۔ طاع ـُ طوعا

طاف: طَاف ـِ طَیْفًا و مَطَافًا الخیالُ :خیال کا خواب میں آنا۔ طَیَّفَ تَطْیِیفًا و أَطَاف الطَافَةً و تَطَیَّفَ تَطَیُّفًا :بہت چکر لگانا۔ الطَیفُ (مص) :خواب میں آنے والا خیال، غصہ، پاگل پن (ف) رہی صورت، وہم، وہم کی پیداوار، پیکر خیالی۔

طیف spectrum اِلطیاف :رات کی تاریکی۔

○ طَافَ ـِ طَیْفًا ب: کو خواب میں پیکر خیالی کا نظر آنا۔

طیف جمع أطیافَ و طُیُوف :تصور، تخیل، وہم، وہمی صورت، وہم کی پیداوار، خواب، سایہ، بھوت، روح، قوس قزح۔ طیف۔ طَیْفِی :بھوت کا سا، طیف پیما کا۔ مِطیاف :طیف پیما۔

طام: طَامَ ـِ طَیْمًا :اچھے عمل والا ہونا۔۔ اللّٰہُ فلانًا علی الخیر :خدا تعالٰی نے اس کو نیک پیدا کیا ہے۔ الطِیماء: طبیعت، مزاج، افتاد طبع۔

طان: ا۔ طَانَ ـِ طَیْنًا و طَیَّن الحائطَ :دیوار کو گارے سے لیپنا۔ الکتابَ :تحریر پر مہر لگانا۔ ـــہُ اللّٰہ علی الخیر : خدا تعالٰی نے اس کو نیک پیدا کیا۔ تَطَیَّنَ: گارے سے لیپا جانا، گارے سے لتھڑنا۔ الطِین: گارا، گارا، ریت اور پانی سے ملا ہوا چونہ، گیلی مٹی۔ الطینة :گارا، ریت اور پانی سے ملا ہوا چونہ، گارے کا ایک ٹکڑا، نیچر، فطرت۔ یابس الطینة :سخت مزاج۔ لہ طینةُ طیبة :اس کی طبیعت نرم ہے۔ مکانٌ طانٌ :بہت گارے والی جگہ۔ الطیانة :گارا بنانے والے کا پیشہ۔ الطیّان :گارا بنانے والا۔ الطَیُّون او الطُبّاق :ایک قسم کا پودا۔ بحر متوسط کے علاقہ میں بافراط پایا جاتا ہے، اس کے پھول زرد رنگ کے ہوتے ہیں، کسی قدر لیسدار ہوتا ہے اور بودار۔ اس سے پسو مارنے یا روکنے کے لئے جھاڑو بنائے جاتے ہیں۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ظ

ط تلفظ طاء حروف تہجی کا سترہواں اور حرف ابجد میں ۹۰۰ کے برابر ہے۔

طاب: ا۔ ظَأَبَ ۔ظَأْبًا شادی کرنا۔ ظَاءَبَ مُظَاءَبَةً ہٗ: سالی سے شادی کرنا۔کہاجاتا ہے۔ تَزَوَّجَا بِالمُظَاءَبَة دونوں نے دو بہنوں سے شادی کی۔ تَظَاءَبَا: ہم زلف ہونا۔ الظَّأْب (مص) جمع ظُؤُوب۔ أَظْؤُب: ہم زلف، ساڑھو۔

۲۔ ظَأَبَ ۔ظَأْبًا ظلم کرنا۔

۳۔ ظَأَبَ ۔ظَأْبًا: شور کرنا۔ التَيسُ بکرے کا میں میں کرنا۔

ظأر: ظَأَرَ ۔ظَأْرًا و ظِئَارًا النَاقَةَ او المرأةَ على ولد غيرها: اونٹنی یا عورت کے دل میں کسی دوسری کے بچے کے لئے شفقت ڈالنا اور اس کا اس پر شفقت کرنا صفت۔ ظَؤُور و ظَؤُورَة جمع أَظْآر و ظُؤَّار ۔۔ ہٗ الی کذا: کو پر مہربان کرنا۔ علی عدوّہٖ اپنے دشمن پر حملہ کرنا۔ ہٗ علی کذا کو کسی پر مہربان کرنا۔ ظَاءَرَ مُظَاءَرَةً النَاقَةَ او المرأةَ على ولد غيرها اونٹنی یا عورت کے دل میں کسی دوسرے کے بچے کے لئے شفقت ڈالنا۔ ہٗ على الامر کو کسی کام کے لئے ورغلانا یا کوکسی کام کرنے پر مجبور کرنا۔ ہٗ على كذا کو پر مہربان کرنا۔ ت المرأةُ عورت کا دایہ بننا۔ دوسرے کے بچے کی پرورش کرنا۔ الرجُلَ کسی کو دایہ بنانا۔ اَظْآرَ اظْآرًا النَاقَةَ او المرأةَ على ولد غيرها: اونٹنی یا عورت کو کسی دوسرے کے بچے پر مہربان کرنا۔ ہٗ على كذا کو پر مہربان کرنا۔ اظّأرَ لولده ظِئرًا: اپنے بچے کے لئے دایہ رکھنا۔ الظِئر جمع أَظْؤُر و أَظْآر و ظُؤُور و ظُؤُورَة و ظُؤَار دوسرے کے بچہ پر شفقت کرنے والی، دایہ۔ انّا۔ ظِئرُ القصر محل کا ستون۔ الظِئرَة تھونی، کھمبا۔ الظُؤُرَة: دایہ، دودھ پلانے والی۔

○ ظِئر دایا، انا۔

ظام: ظَانَمَ مُظَاءَمَةً ہٗ و تَظَاءَمَا تَظَاؤُمًا کا ہم زلف ہونا۔ الظَأَم ہم زلف، ساڑھو۔ ظبو: الظُبَة جمع ظُبَات و ظُبًى و ظُبُون و ظِبُون و أَظْب تلوار وغیرہ کی دھار۔ ظُبَة کی اصل ظُبَوٌ ہے۔ واؤ حذف کر کے اس کی جگہ ھاء لائی گئی ہے۔

ظبی: ا۔ أَظْبَى المكانُ جگہ کا بہت ہرنوں والی ہونا۔ الظَبْي جمع ظِبَاء و أَظْب و ظُبِيّ و ظَبَيَات (ح): ہرن، ہرنی۔ بہ داءُ الظَبْي اسے کوئی بیماری نہیں کہتے ہیں۔ اذا اتيتهم فاربضْ فی دارهم ظبيًا: جب تم لوگوں کے پاس جاؤ تو ان کے گھر ہرن کی طرح ٹھہرنا کیونکہ اگر اسے شک ہو تو وہ وہاں نہیں ٹھہرتا۔ ہرن صرف مرض الموت میں ہی بیمار پڑتا ہے۔ الظَبْيَة جمع ظِبَاء و ظَبَيَات (ح): ہرنی، بکری، گائے، نوجوان لڑکی (بطور استعارۃ) ہرن کے بال والا چمڑے کا چھوٹا تھیلا۔ ارضٌ مَظْبَاةٌ بہت ہرنوں والی زمین۔

۲۔ الظَبْيَة وادی کا موڑ۔

○ ظَبْي جمع ظِباء غزال ظَبْيَة جمع ظَبَيَات غزالہ۔

ظرّ: ا۔ ظَرَّ ۔مَظَرَّةً: دھاردار پتھر توڑنا۔ الناقةَ اونٹنی کو دھاردار پتھر سے ذبح کرنا۔ اَظَرَّ دھاردار پتھروں والی زمین میں چلنا، آنا۔ واقع ہونا۔ ـــ المكانُ: جگہ کا دھاردار یا نوکدار پتھروں والی ہو۔ الظِرّ و الظُرَر و الظُرَرَة جمع ظُرّان و ظِرّان و ظِرَار و أَظِرَّة دھاردار پتھر، پتھر۔ الظِرّان نیزے، بھالے، کلہاڑے وغیرہ شکل پر بنائے ہوئے چقماق کے ٹکڑے جو زمانہ قدیم میں دیا سلائی کی جگہ استعمال ہوتے تھے۔ الطورُ الظِرِّيّ او الظُرّانی نوکدار پتھروں کا پہاڑ۔ ارض ظَرِير و مَظَرَّة بہت چقماق والی زمین۔ المِظَرَّة جمع مَظَارّ چقماق۔

۲۔ الظَرِير جمع ظِرَار و أَظِرَّة و ظُرّان راستہ دکھانے کے لئے نشان۔

○ ظِر تیز دھار پتھر، چقماق۔

ظرب: ظَرِبَ ۔ظَرَبًا بكذا سے چمٹنا۔ الظَرِب جمع ظِرَاب و أَظْرُب ابھرا ہوا تیز نوک والا پتھر۔ چھوٹا ٹیلہ۔ الظُرُب من الرجال پست قد موٹا آدمی۔ الظَرِبان و الظَرِبَاء جمع ظَرَابِيّ و ظَرَابِين (ح): قطبی بلی، بلی کی طرح کا ایک بدبودار جانور۔ اود بلاؤ کہا جاتا ہے: فسابينهم الظَرِبان ان میں نا اتفاقی پڑ گئی۔ الظِربَى و الظِرباء: ظربان کی اسم جمع۔ الأَظْرُب: نواجذ کے پیچھے، چار دانت۔ أَظْرَابُ اللجام لگام کی گرہیں، جو اس کے لبے کے اطراف میں ہوتی ہیں۔

ظرف: ا۔ ظَرُفَ ۔ظَرْفًا و ظَرَافَةً دانا اور خوش شکل ہونا، ذہین اور ماہر ہونا۔ صفت۔ ظَرِيف جمع ظُرَفَاء و ظِرَاف و ظُرُف و ظُرُوف و ظَرِيفُون م ظَرِيفة جمع ظَرِيفات و ظَرَائِف۔ ظَرَفَ ۔ظَرْفًا و ظَرَافَةً ہٗ سے زیادہ ظریف ہونا کہا جاتا ہے: ظارفنی فظرفتُہٗ اس نے ظرافت میں مجھے شکست دینے کی کوشش کی لیکن میں اس پر غالب آ گیا۔ أَظْرَفَ: خوبصورت ذہین بچوں والا ہونا۔ تَظَرَّفَ و تَظَارَفَ: دانا اور زیرک بننا۔ إِسْتَظْرَفَ ظریف طلب کرنا۔ ۔ ہٗ کو ظریف شمار کرنا یا پانا۔ الظَرْف (مص) دانائی، مہارت، فوقیت۔ الظُرَاف و الظُرَّاف جمع ظُرَفَاء و

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ظُرَّافون: ظریف۔

۲۔أظْرَفَ المتاعَ: کو برتن بنانا۔الظَّرْف: برتن کہا جاتا ہے: مِن الظَّرْف جود المهْدي بالظرف: تحفہ دینے والے کا اس برتن کی سخاوت کرنا جس میں تحفہ بھیجا جاتا ہے، ایک دانائی ہے، عام لوگ مشکیزہ کے معنی میں بھی ظرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔جمع ظُـــرُوف: جگہ یا وقت جیسے دن، جب، جس وقت، پر، نیچے اسی سے ہے۔ظـروف الزمان و المَکَان: کہا جاتا ہے: هـو نـقـي الـظـرف: وہ امین اور وفادار ہے۔رأيتُـهُ بـظَرْفِهِ: میں نے اسی کو دیکھا، میں نے اسی کو ذاتی طور پر دیکھا۔الـمَـظْـرُوف (مفع): برتن میں سمائی ہوئی چیز کہا جاتا ہے: بعثت بالرسائل مظروفةً: میں نے خطوط لفافوں میں رکھ کر بھیجے۔

○ ظَرُفَ ۔ظَـرْفًـا و ظـرافَةً: دلکش، دلربا، دل فریب پسندیدہ، مرغوب ہونا، طرحدار ہونا، وضع دار ہونا، نفیس ہونا، خوبصورت، حسین و جمیل ہونا، شاندار اور خوش وضع ہونا، صاف ستھرا ہونا، بذلہ سنج ہونا، ظریف ہونا، زندہ دل اور شگفتہ ہونا۔ظَرَّفَ ہ/ ہ: کو آراستہ کرنا، سجانا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا، کی تزئین کرنا، کو جھکانا، شائستہ بنانا، کو دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دلیری، دل آویزی عطا کرنا۔۔ ہ: کو لفافہ میں رکھنا، ڈھکنا، لپیٹنا، ملفوف کرنا۔تَـظَـرَّفَ: اپنے آپ کو خوبصورت حسین و جمیل ظاہر کرنا، شستہ ظاہر کرنا، خوش وضع ظاہر کرنا، بذلہ سنج ظاہر کرنا، زندہ دل اور شگفتہ ظاہر کرنا یا بننا۔تَـظارف بمعنی تَـظَـرَّفَ، اِسْـتَـظْـرَفَ ہ/ ہ: کو بذلہ سنج، دلکش، خوش وضع، چالاک، ہوشیار، مستعد، شاطر سمجھنا یا پانا۔ظَرْف: شستگی، پاکیزگی، حسن و جمال، خوش پوشی، آن، شان، سحر، افسون، زیرکی، چالاکی، ہوشیاری، باتدبیری، بذلہ سنجی، ظرافت۔جمع ظُروف: برتن، ظرف، کوئی شے رکھنے کے لئے جیسے ڈبہ، بوتل وغیرہ، چیز دان، ڈھکنا، پوش، پوشش، چادر، شال، کھیس وغیرہ (خطوط کا) لفافہ کیپسول (Capsule)، کیس Case، ظرف زمان و مکان ۔ظُـــرُوف: حالات ۔ بظرفِ یا فی ظرفِ: کے اندر، میں، کے دیئے گئے وقت میں۔ظُـروُف مُخَفِّفَة اور ظروف التخفیف: جرم کی نوعیت کو کم کرنے والے حالات۔
Extenuating circumstances
ظُــرُوف مُشَـدِّدَة: سنگین بنانے والے حالات۔
بـحسب الظروف: حالات کے مطابق، حالات پر منحصر۔بیِّـنَة ظَرْفِيَة یا دَلِيـلٌ ظَرْفِي: قرائنی شہادت (Circumstantial evidence) ظَرِيف جمع ظُـرَفَـاء م ظَـرائِف: خوش پوش، خوبصورت، حسین، جمیل خوش وضع شاندار، دلکش، دلفریب، زندہ دل، شگفتہ، بذلہ سنج نفیس، عمدہ۔ظَـرافَة: شستگی یا پاکیزگی، حسن و جمال، خوش پوشی، آن، شان، سحر، افسون دلفریبی دلکشی وغیرہ، زندہ دلی، شگفتگی، ظرافت، بذلہ سنجی۔تَـظْـرِيف: بذلہ سنجی، ذہین، فطین اور بذلہ سنج انداز۔تَـظَـــرُّف: حسن و جمال، آن شان، شستگی، پاکیزگی، خوش پوشی، شان، سحر، دلکشی، بذلہ سنجی، زندہ دلی، شگفتگی۔مَـظْـرُوف جمع مَـظَـارِيف: لفافہ۔ مُتَـظَـرِّف: خوبصورت، خوش وضع، خوش پوش، بانکا، چھیلا، چھیل چھبیلا۔مُسْتَـظْـرَف: خوبصورت، خوش وضع، خوش پوش، شاندار۔أَصْنَافٌ مستظرفة: رنگ برنگ کی چیزیں، سامان آرائش۔

ظرن: الظِّرّان: دیکھئے ظرّ

ظری: ظَرَى ۔ظَرْيًا الماءُ: پانی کا بہنا۔ظَرِيَ ۔ظَرِيَ الغلامُ: لڑکے کا زیرک ہونا۔اِظْـرَوْرَى اِظْرِيرَاءً: کا پیٹ پھولنا۔الـظَّـارِي (فا): کاٹ کھانے والا۔ الظَّرَوْرِي: زیرک، عقل مند، بذلہ سنج، ظریف۔

ظعن: ظَعَنَ ۔ظَـعْـنًـا و ظَعَنًا و ظُعُونًا و مَظْعَنًا: کوچ کرنا، روانہ ہونا کہا جاتا ہے: ظعنوا عن ديارهم: وہ اپنے گھروں سے کوچ کر گئے۔أَظْـعَـنَ هُ: کو روانہ کرنا۔اِظَّعَنَ الهودجَ: پالکی میں سوار ہونا۔الظِّعَان: ہودہ باندھنے کی رسی۔الـظَّـعُـون بمعنی الـظِّـعَـان۔ والـظَّعُونة جمع ظُعُن: پالکی اٹھانے والا اونٹ، لدو اونٹ۔الظَّعِينة جمع ظَعَائِن و ظُعْن و ظُعُنُ و جمع اَظْعَان و ظُعُنَات: ہودہ میں بیٹھی ہوئی عورت یا بیوی، ہودہ کہا جاتا ہے: هـولاء ظَعَـائِنُهُ: یہ اس کی عورتیں ہیں۔الـمِـظْـعَـان من الخيل او النوق: نرم رفتار گھوڑا یا اونٹنی۔

○ ظَعْن: روانگی، سفر، کاروان یا قافلہ کا لمبا سفر۔ظَـاعِن: عارضی، چندروزہ، ناپائیدار، آتی جاتی، برق پا، گریز پا، وقتی۔

ظفر: ا۔ظَفَـرَ ۔ظَـفْـرًا ہ: کے چہرہ میں ناخن چبھونا، کا ناخن توڑنا۔ظَفِرَ ۔ظَفَرًا: کی آنکھ میں ناخنہ ہونا۔ایسا شخص: مَـظْـفُـور ۔۔ ت عـیـنُـهُ: آنکھ کا ناخنہ والی ہونا۔ظَـفِـرَة: ناخنہ والی آنکھ۔ظَـفَّـرَ الشيءَ: میں ناخن چبھونا۔الجلدَ: چمڑے کو ملنا۔الثوبَ: کپڑے پر خوشبو لگانا۔اَظْـفَـرَ فـلانًـا: کے چہرے میں ناخن چبھونا۔الظُّفُر: ناخنہ (آنکھ کی ایک بیماری) والظَّفَر والـظُّفُر: ناخنہ (آنکھ کی ایک بیماری) ۔۔ و الظِّفْر والظُّفُر جمع أظفار و جمع الجمع أظَافِير (ع ا) ناخن کہا جاتا ہے: مابقي في الدار ظُفر: گھر میں کوئی نہیں رہا۔رأيتُـهُ بـظُـفـره: میں نے اسی کو دیکھا۔فَـلَّـمَ أظفارَهُ عن اذى الناس: اس نے لوگوں کو ایذا رسانی کم کر دی یا روک دی۔کَسَّرَ اظفارَهُ في فلان: اس نے فلاں کی غیبت کی۔الأظْفَار: ناخن کے مشابہ ایک خوشبودار چیز (اس کا واحد نہیں آتا) (فَلَک) نسر کے آگے کے ستارے۔أظفارُ الثوب: کپڑے کی سلوٹیں۔الظَّفِرة: ناخنہ (آنکھوں کی ایک بیماری)۔الأظْفَر: لمبے چوڑے ناخنوں والا۔

۲۔ظَفِرَ ۔ظَـفَـرًا و اظْفَـرَ المطلوبَ و به و عليه: مقصد میں کامیاب ہونا، غالب ہونا۔ظَـفَّـرَهُ: کے لئے کامیابی کی دعا کرنا۔۔ و أَظْفَرَهُ بِعَدُوِّهِ: کو دشمن پر کامیاب کرانا۔تَظَافَرَ القومُ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔الـظَّـفِـر و الـظَّـفِـير و الـظِّفِّير: کامیاب۔الظَّفَرَة: ظافِر کی جمع (کامیاب فاتح لوگ) المُظَفَّر والمظْفار: ہر کام میں کامیاب اور فتح مند۔

○ ظَفِرَ ۔ظَفَرًا: کامیاب ہونا، فاتح ہونا، فتح مند ہونا۔ ب / علـى: پر فتح حاصل کرنا، کو فتح کرنا، شکست دینا، پر غالب آنا، کو گھیرے میں لینا، کچل دینا، کا بہتر حصہ حاصل کرنا، کا قبضہ حاصل کرنا، کو حاصل کرنا، جیتنا۔ظَفَّره ب / علی: کو پر فتح مند کرنا۔۔ ہ علی / ب: کو پر فاتح بنانا۔أظفر: بمعنی ظَفَّرَ۔ تـظافر علی: کے خلاف متحد ہونا، کے خلاف اتحاد کرنا۔ظُـفْـر و ظُفُر و ظِفر جمع اظفار و اظافِر و أظافير: ناخن، پنجہ، چنگل۔من (یـا مـنـذ) نعومة أظفاره: جوانی سے لڑکپن سے ہی۔ناعِمُ الظفر: نوجوان۔ظَفَر: کامیابی، فتح مندی، فتح۔ظَـفِـر: کامیاب، فتح مند، فاتح جمع ظـفـران: نوجوان۔أظْـفُـور جمع اَظـافیـر: ناخن، پنجہ، چنگل۔ظَـافِـر: فاتح، فتح مند کامیاب۔مُظَفَّر: فاتح، کامیاب۔

ظل: ا۔ظَلَّ ۔ظَلًّا و ظُلُولًا يفعل كذا: (کچھ) کرتا رہنا، آپ کہتے ہیں: ظَلِـلْـتُ و ظَلْتُ و ظِلْتُ: (میں کرتا رہا) ۔۔ ظَلالَةً اليومُ: دن کا سایہ دار ہونا۔الشيءُ: چیز کا لمبا ہونا۔ظَـلَّـلَ هُ: پر سایہ ڈالنا۔أَظَلَّ الیـومُ: دن کا سایہ دار ہونا۔هُ: پر سایہ ڈالنا کو اپنی پناہ میں لینا، اپنی سرپرستی میں لینا، اپنی حفاظت میں لینا۔الامـرُ فـلانًـا: کے پاس آنا، نزدیک آنا کہا جاتا ہے: اَظَلَّـكَ الشهـرُ: مہینہ تمہارے نزدیک آیا۔تَـظَـلَّلَ بـالـشـجـرة: درخت کے سایہ میں بیٹھنا۔اسـتَـظَلَّ بـالـظـلِّ: سایہ کی طرف جھکنا اور اس میں بیٹھنا۔الكَرْمُ: انگور کی خوشہ دار شاخوں کا الجھنا۔من الشيء:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کا سایہ لینا۔۔ ت الشمسُ: سورج کا بادلوں میں
چھپ جانا۔الظِلّ: عزت، قوت، فراست، نا قابل
رسائی ہونا (کہا جاتا ہے: ھو فی ظلِّہ: وہ اسکی
حفاظت میں ہے اسکی پناہ میں ہے) آرام، آسودگی۔
جمع ظِلال و اَظلال و ظُلُول۔ سایہ۔ من القیظ:
گرمی کی شدت۔من اللیل: رات کی سیاہی یا رات کا
حصہ کہا جاتا ہے: مشیتُ علی ظِلّی او انتعلتُ ظِلّی:
میں اس وقت چلا جب دن آدھا گزر چکا تھا اس لئے
سایہ نہیں ملا۔بقی عندی ظِلَّ النہار: وہ میرے
پاس سارا دن رہا۔ یہ اس لئے کسی چیز کا سایہ اسکی
موجودگی تک رہتا ہے اور غیر موجودگی میں نہیں رہتا۔
کان ذلک الیوم یومًا اطول من ظل القناة: یعنی
وہ دن بہت زیادہ طویل تھا۔ مُلاعبُ ظِلّہٖ او خاطفُ
ظِلّہ (ح) ایک پرندے کا نام، کہتے ہیں یہ پرندہ شتر
مرغ ہے۔ جب پانی میں اپنے سائے کو دیکھتا ہے تو
اس کو چھیننے کے لئے اسکی طرف بڑھتا ہے۔الظَلَل:
پانی جو درختوں کے سایہ کے نیچے ہو اس تک دھوپ نہ
پہنچے۔الظُلَّة جمع ظُلَل و ظِلال: تنگ سائبان، ہر وہ
شئے جس کے ذریعے گرمی یا سردی سے پناہ لیں، ہر
سایہ دار چیز جیسے درخت۔الظَلّة: اسم مرة۔ اقامت
الظِلّة و الظَلال و الظَلالة: ہر سایہ دار چیز جیسے بادل
وغیرہ۔الظِلال: سایہ۔ظِلالُ البحر: سمندر کی
موجیں۔الظَلیل: سایہ دار، ہمیشہ سایہ دینے والا۔
ظِلٌّ ظَلیل: گھنا سایہ دار یا ہمیشہ سایہ دار۔الظلیلة
الظلیل کا مونث: بہت درختوں والا باغ، وادی کے
نشیب میں پانی کا تالاب، جہاں پانی بند رہتا ہے۔
المِظَلَّة و المَظَلّة جمع مَظال: جس سے سایہ لیا
جائے، بڑا خیمہ، چھتری (دھوپ کی) جمع مظلّات:
پیراشوٹ، ہوائی چھاتہ۔عید المَظالّ: یہودیوں کی
عید جس میں وہ پتوں کے خیمے نصب کر کے چند یوم مصر
کی غلامی سے نکلنے کی یاد مناتے ہیں۔ المُظَلِّیُّون:
واحد اس کا مظلی ہے، ہوائی چھاتے سے اترنے والا
چھاتا باز۔یومٌ مُظِلٌّ: سایہ دار دن۔
۲۔ ظَلَّلَ بالسوط: ڈرانے کے لئے کوڑے کو ہلانا۔
۳۔ اِستَظَلَّ ت العیونُ: چشمے کے پانی کا نیچے بیٹھ جانا۔
۴۔ الظِلّ من الثوب: کپڑے کا رواں۔ظلّ الشباب
او الشتاء: جوانی یا جاڑے کا آغاز کہا جاتا ہے: فلانٌ
یباری ظِلَّ راسه: فلاں تکبر کرتا ہے۔
○ ظلّ یسکن البیتَ: وہ گھر میں رہتا رہا۔ظلّ صامتًا:
وہ خاموش رہا۔ظلّ علی موقف: وہ ایک موقف
(نقطہ نگاہ یا رویہ) پر ڈٹا رہا، جما رہا، قائم رہا۔ فی ظِلّ: کی
حمایت یا سرپرستی میں، کے زیر اہتمام کے زیر
حاکمیت۔تحت ظلّ: کی حمایت یا سرپرستی میں، کے
زیر اہتمام۔ثقیل الظِلّ: سخت، ناپسندیدہ، بے حد
غرور، نا قابل حد تک غرور، نا قابل برداشت، ناگوار۔
خفیفُ الظِلّ: پسندیدہ نفیس۔اِستَثقَلَ ظِلَّهُ: کو
ناپسند کرنا، کو نا قابل برداشت، بے حد مغرور یا مغز
چاٹ پانا۔تقَلَّصَ (یا قلص) ظِلُّهُ: اسکی ساکھ، وقار یا
اختیار جاتا رہا۔ظُلَّة جمع ظُلَل: سائبان، شامیانہ، چتر،
پناہ کا جھونپڑا یا خیمہ، پناہ، جھونپڑی، کھوکھا، شال،
ساحل پر بنی ہوئی کرسی۔ظلیل: سایہ دار، چھاؤں میں
بنی ہوئی یا رکھی ہوئی کوئی چیز۔مِظَلّة و مَظَلّة جمع
مِظلّات و مَظال: چھتری، زنانہ چھاتہ، دکان کا
سائبان۔لیمپ شیڈ، سائبان، شامیانہ، برآمدہ، بیرونی
ڈیوڑھی، پیش دہلیز۔مِظلّة واقیة پیراشوٹ، ہوائی
چھاتہ۔مظلة ھابطة: پیراشوٹ، ہوائی چھاتہ۔
جندی المظلّة جمع جنود المظلات (او
المظلة): چھاتا فوجی۔مِظَلِّی جمع مِظَلِّیُّون: چھاتہ
فوجی جمع مِظلّیون: چھاتا فوج، ہوائی جہاز میں جانے
وال فوج۔مُظلِّل: سایہ دار۔مُظِلّ: سایہ دار۔

ظلع: ۱۔ ظَلَعَ ۔ظَلْعًا البعیرُ: اونٹ کا چلنے میں لنگڑانا
صفت ظالِع: الظَلْع (مص): عیب کہا جاتا ہے۔
اربَعْ علی ضَلْعِك: جو بات تم نہیں کر سکتے اس سے
باز رہو۔لایَربَعُ علی ظَلْعِك من لیس یحزنه
اَمرُك: جس کو تمہاری حالت پر رنج ہوتا ہے صرف وہی
تمہارا خیال رکھتا ہے۔ارْقَ علی ضَلْعِك: (ارقا بھی
کہا جاتا ہے) پہلے اپنی اصلاح کرو یا اپنی حد سے تجاوز
نہ کرو، اپنی خامی پر نظر رکھو۔الضَلَع: لنگڑا پن۔
الظالِع (فا): (مذکر و مونث دونوں کے لئے) جمع
ظُلَّع: مائل، جھکا ہوا۔الظُلاع: (طب) جانوروں
کے پاؤں کی بیماری۔
۲۔ ظَلَعَ ۔ظَلْعًا ت بھم الارضُ: زمین ان پر تنگ
ہوگئی۔
۳۔ الظالِع: (مذکر و مونث کے لئے) جمع ظُلَّع:
متہم مشکوک۔مونث کو ظالعة بھی کہا جاتا ہے۔مُتَّھم
(جس پر تہمت لگی ہو) مونث کو ظالِعة بھی کہا جاتا۔
○ ظَلَعَ ۔ظَلْعًا: لنگڑانا لنگڑا کر چلنا۔
ظالِع: لنگڑا، لولا۔

ظلف: ۱۔ ظَلَفَ ۔ظَلْفًا: کھر پر مارنا۔۔ ظَلْفًا القومَ:
قوم کے نشانات قدم پر چلنا۔۔ اَثرَهُ: اپنے پاؤں کے
نشانات کو چھپا دینا تا کہ اس کا پیچھا نہ کیا جا سکے۔
ظَلِفَ الرجلُ: سخت ... تا کہ ...
قدم کا پتہ نہ لگ سکے۔ظلِفَ ۔ظَلَفًا ت الارضُ:
زمین کا سخت ہونا۔۔ ت معیشةُ فلان: کی زندگی
کا تکلیف دہ ہونا۔ظالَفَ مُظالَفةً اَثرَهُ: کے نشانات
قدم کو چھپا دینا تا کہ پہچانا نہ کیا جا سکے۔تَظَلَّفَ و
اَظَّلَفَ: سخت زمین میں جا پڑنا۔الظِلْف جمع ظُلُوف
و اَظلاف: پھٹا ہوا، کہا جاتا ہے۔جاؤوا علی
ظِلفِہ: وہ اس کے قدم کے نشانوں پر آئے) اس کا
پیچھا کرتے ہوئے آئے۔ضرورت۔حاجت۔گزران
کی تنگی۔الظَلَف: سخت و پتھریلی زمین۔ارضٌ ظَلِفَة
و ظَلِفَة و ظَلَفَة: پتھریلی زمین۔الظَلیف جمع
ظُلُف و ظُلُف: بدحال، ذلیل، سخت مشکل کام۔الا
ظُلوفة جمع اَظالیف: سخت مٹی، نوکیلے پتھروں والی
زمین۔
۲۔ ظَلَفَ ۔ظَلْفًا نفسَهُ عن الشیءِ: اپنے آپ کو کسی
چیز یا بات سے باز رکھنا، روکنا۔ظَلِفَ ۔ظَلَفًا ت
نفسُهُ عن کذا: سے رکنا، باز رہنا۔ظَلَّفَهُ عن
کذا: کو سے دور کرنا۔اَظلَفَهُ: کو دور کرنا، ہٹانا۔
رجلٌ ظَلِفُ النفس: بری باتوں سے پرہیز کرنے
والا۔رجلٌ ظَلیفُ النفس: پاکیزہ نفس، برائیوں
سے پرہیز کرنے والا۔
۳۔ ظَلَّفَ علی کذا: پر زیادہ کرنا، میں اضافہ کرنا۔
۴۔ الظَلْف: مباح، جائز و باطل کہا جاتا ہے: ذھب دمُهُ
ظَلْفًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔الظَلَف: پانی اور کیچڑ
سے اونچی جگہ، کہا جاتا ہے۔ذھب دمُهُ ظَلَفًا: اس کا
خون ناحق اور رائیگاں گیا۔اخذه بظَلِفِه: اس نے
سب کچھ لے لیا اور کچھ نہ چھوڑا۔الظَلِف: پانی اور کیچڑ
سے بلند جگہ۔الظَلِفة: کہا جاتا ہے۔اخذه بظلفته:
اس نے سب لے لیا، کچھ نہیں چھوڑا۔الظَلیف: کہا
جاتا ہے۔ذھب دمُهُ ظلیفًا: اس کا خون ناحق اور
رائیگاں گیا، کہا جاتا ہے: اخذه بظَلیفِه و بظَلیفتِه:
اس نے سب لے لیا اور کچھ نہیں رہنے دیا۔الظَلفاء:
ہموار لمبی چٹان۔
○ ظِلف جمع ظُلُوف و اَظلاف: پھٹا ہوا کھر۔

ظلم: ۱۔ ظَلَمَ ۔ظُلْمًا و ظَلْمًا و مَظلِمةً هُ: پر ظلم کرنا،
اسی سے ہے۔ظَلَمَ الراعي لِرَعِیَّتِه: سرپرست کا
اپنے محکوموں پر ظلم۔۔ ہُ حقَّهُ: کے حق کو کم کرنا۔
ظَلَّمَهُ: کو ظالم کہنا۔۔ هُ الحاکمُ: حاکم کا کسی کو اس
پر ظلم کرنے والے سے حق دلانا اور اسکی مدد کرنا کہا جاتا
ہے۔تَظَلَّمَ فلان الی الحاکم من فلان فظَلَّمَهُ:
حاکم سے کسی کے ظلم کی شکایت کرنا اور حاکم کا اس سے
انصاف کرنا۔اُظْلِمَ الرجلُ: مظلوم ہونا۔تَظَلَّمَ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

منہ :کے ظلم کی شکایت کرنا۔ ہٗ حَقَّہٗ : کے حق کو گھٹانا۔
الرجُلُ: ظلم پر صبر کرنا، کہا جاتا ہے۔ ظلمتهُ فتظلّمَ : میں نے اس پر ظلم کیا تو اس نے اس پر صبر کیا۔ تَظَالَمَ القَوم: ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ اِظَّلَمَ و اِنظَلَمَ: ظلم برداشت کرنا۔ الظُّلم: حق کی کمی، ظلم۔ الظُّلامَة و المَظلِمَة جمع مَظَالِم: بے انصافی، ظلم، ظلم سے لی ہوئی چیز۔ الظَالِم جمع ظَالِمون و ظَلَمَة و ظُلّام (فا): ظالم۔ الظِلام: ظلم، کہا جاتا ہے۔ نظر اِلَیَّ ظِلاماً: اس نے میری طرف ترچھی نظر سے دیکھا۔ الظَلّام و الظِلّیم و الظَلوم: بہت ظلم کرنے والا۔ الظَلِیم جمع ظِلمان و ظُلمان و أظْلِمَة: مظلوم۔ الظَلِیمَة: ظلم سے لی ہوئی چیز۔

۲۔ ظَلَمَ - ظُلْماً و ظَلْماً و مَظلِمَةً: چیز کو بے موقع رکھنا۔ مثل ہے: من استرعی الذئب فقد ظلم جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چوکیدار بنایا تو اس نے بکریوں پر ظلم کیا، یہ مثل اس وقت بیان کی جاتی ہے جب کوئی خائن کو امین بنائے یا امانت کو اسکی جگہ پر نہ رکھے۔ - الارض: زمین کو بے موقع کھودنا۔ الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے: ما ظَلَمَكَ أنْ تفعل كذا: تجھے ایسا کرنے سے کس نے روکا۔ ظَلَمَ البعیر: اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ذبح کرنا۔ کل ما اعجلته عن اوانه فقد ظلمته: جس کام کو آپ اس کے صحیح وقت سے پہلے کریں تو یہ اس پر ظلم ہے۔ الظُلم (مص): چیز کو اس جگہ نہ رکھنا جہاں اسے رکھنا چاہئے۔ بے محل بات۔ المَظْلُومَة (مفع): وہ زمین جسے کھودنے کی جگہ نہ کھودا گیا ہو۔

۳۔ ظَلِمَ - ظَلَماً اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ أظْلَمَ اللیل: رات کا تاریک ہونا ــ اللّٰہُ اللیلَ: اللہ کا رات کو تاریک بنانا۔ الرجُلُ: اندھیرے میں داخل ہونا۔ ما أظْلَمَه و ما أضْوَأَه: وہ کس قدر تاریک ہے وہ کس قدر روشن ہے (دونوں خلاف قیاس ہیں) لیلٌ ظَلِمٌ: نہایت تاریک رات۔ الظَلَم جمع ظُلُوم: وجود، بدن۔ الظُّلْمَة و الظُّلُمَة جمع ظُلَم و ظُلُمات و ظُلَمات و ظُلْمات: تاریکی، اندھیرا۔ الظُلَم قمری ماہ کی آخری تین راتیں۔ الظلام: تاریکی، اندھیرا، رات کا پہلا حصہ۔ الظَّلْماء: تاریکی لیلة ظَلْماء: سخت تاریک رات کبھی لیلٌ ظَلْماء بھی کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ خلاف قیاس ہے۔ الظَلامِیّ: ظلامیة: مذہب رکھنے والا۔ الظَّلامِیَّة: ان لوگوں کا مذہب جو عام لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ امرٌ مِظلامٌ: بہت کٹھن کام۔

۴۔ أظْلَمَ الرجُلُ: دانتوں کی چمک حاصل کرنا، چمکدار دانتوں والا ہونا۔ الظَلْم جمع ظُلُوم: برف، دانتوں کی چمک۔

۵۔ الظَلَم جمع ظلوم: پہاڑ۔ الظَلِیم جمع ظِلمان و ظُلمان و أظْلِمَة (ح): شترمرغ۔

○ ظَلَمَ - ظَلْماً و ظُلْماً: ظلم کرنا، برا کام کرنا۔ ہٗ: پر ظلم کرنا، سے برا سلوک کرنا، کو نقصان پہچانا، پر ظلم کے پہاڑ توڑنا۔ ظَلِمَ - و أظْلَمَ: تاریک ہونا یا ہوجاتا، تیرہ و تار ہونا، گھٹاٹوپ ہونا۔ تَظَلَّمَ من: کی شکایت کرنا، کے بارے میں شکایت کرنا۔ اِنظَلَمَ و اِظَّلَمَ: مظلوم ہونا، بے انصافی کا شکار ہونا۔ ظُلْماً: ظلم سے، بے انصافی سے، ناروا طور پر، غلطی سے۔ بحرُ الظلمات: بحر اوقیانوس۔ ظَلّام: بدکار، بدمعاش، غلط کار، موذی، مجرم، بد ذات، ظالم۔ ظُلامَة جمع ظلامات: بدی، ظلم، بے انصافی، سخت ظلم۔ اَظْلَم: زیادہ تاریک، زیادہ برا، خراب یا شرمناک، زیادہ بدنام، زیادہ وحشی یا بدمعاش۔ مَظْلِمَة جمع مظالِم: برائی، ظلم، بے انصافی، بے انصافی کا کام، سخت ظلم۔ اِظْلام: تاریکی، اندھیرا۔ ظالم جمع ظَالِمون و ظُلّام و ظَلَمَة: بے انصاف، جانبدار، غیر منصف، ناجائز، ظالم، گنہگار، مجرم، قانون شکن۔ مَظْلُوم: مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا، جس سے برا سلوک کیا گیا، جس سے ناانصافی کی گئی۔ مُظْلِم: تاریک، گھٹا ٹوپ، اندھیرا، اندھیری، سیاہی مائل، کالا سیاہ، دھندلا سا۔

ظمی: ظَمِیَ - ظَمًى و ظَمًا و ظَمَاءً و ظَمَاءَةً: سخت پیاسا ہونا۔ الیہ: کا مشتاق ہونا۔ صفت مذکر ظَمِیٌّ و ظَامٍ و ظَمْآن صفت مونث ظَمِئة و ظامِئة و ظَمْای و ظَمْآنة جمع ظِمَاء (مذکر و مونث دونوں کے لئے) ظَمّأہٗ: کو پیاسا کرنا۔ الفرسَ: گھوڑے کو لاغر کرنا۔ اظمأہٗ: کو پیاسا کرنا۔ تَظَمَّأ: پیاس پر صبر کرنا۔ الظِمء جمع أظْمَاء و الظَمَا و الظَمَاء: پیاس۔ المِظْماء: سخت پیاس۔ المَظْمَأ: پیاس کی جگہ (زمین کی)

○ ظَمِیَ - ظَمًا و ظَمَاءً و ظَمَاءَةً: پیاس لگنا، پیاسا ہونا۔ ظَمَّأہٗ: کو پیاس لگانا۔ ظِمْء ظَمًا و ظَمَاءٌ: پیاس۔ ظَمْآن (مذکر) پیاسا۔ ظَمْای (مونث) پیاسی ظَامِیٌ: پیاسا۔

ظمی: ظَمِیَ - ظَمًى: گندم گوں ہونا۔ الأظْمَی: گندم گوں۔ الظَمْیاء جمع ظُمْی الأظمی کا مونث (گندم گوں (عورت) شفة ظَمْیاء: پژمردہ گندمی ہونٹ۔ عینٌ ظَمْیاء: باریک پلکوں والی آنکھ۔ لثة ظَمْیاء: کم خون والا مسوڑھ۔ ساقٌ ظَمْیاء: کم گوشت والی پنڈلی۔

ظن: ۱۔ ظَنَّ - ظَنًّا الشيءَ: کو جاننا کا یقین کرنا۔ ظنوا ان لا ملجأ من اللّٰه الا الیه: انہوں نے یقین سے جان لیا کہ اللہ کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں مگر اس کے پاس (اور گمان کے معنی بھی دیتا ہے) جیسے ظننتُ زیداً صاحِبَك: میں نے زید کو تمہارا ساتھی سمجھا (گمان کیا) مبتداء اور خبر پر آتا ہے اور دونوں کو بطور مفعول منصوب کرتا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا۔ و اظَنَّ و اِظَّطَنَّ ہٗ بکذا: کو سے متہم کرنا۔ أظَنَّ ہٗ بکذا: کو سے متہم کرنا ــ ہٗ الشيءَ: کو کے وہم میں مبتلا کرنا، کے دل میں کا وہم ڈالنا۔ فیہ الناسَ: کو لوگوں کی الزام تراشی کا نشانہ بنانا۔ تَظَنَّنَ و تَظَنَّی: گمان کرنا۔ الظَنّ (مص) جمع ظُنُون و جمع اظانِین: (خلاف قیاس) گمان، یقین، شک، فقہا کے نزدیک، غالب ظن جو یقین سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ الظِنَة جمع ظِنَن و ظَنَائِن: تہمت۔ فیہ ظِنة: اس میں تہمت ہے۔ الظِنَانَة: تہمت۔ الظَنّان: بدظن، بدگمان، غیر معتبر۔ الظَنُون: بدگمان، بدظن۔ رجل ظَنُون: کم حیلہ، کمزور، غیر معتبر آدمی۔ وہ شخص جس کی خبر پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ بئرٌ ظَنُونٌ: وہ کنواں جس میں پانی ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو۔ دَینٌ ظَنُونٌ: وہ قرض جس کے وصول ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو۔ الظَنِین جمع أظِنَاء: متہم مشکوک، بدظنی کی وجہ سے ناپسندیدہ۔ الأظَنّ: خیال رکھے جانے کے زیادہ لائق۔ نفسٌ ظَنَّاء: متہم نفس۔ مَظِنَّة الشيء جمع مَظَانّ: وہ جگہ جہاں کسی چیز کے وجود کا گمان اور خیال ہو۔ فلانٌ مظنة الخیر: فلاں شخص میں بھلائی کا وجود اس کی مانوس چیز ہے۔ فی المسألة مظنة اعتراض: اس مسئلہ میں اعتراض کی گنجائش ہے۔

۲۔ الظِنَّة جمع ظِنَن و ظَنَائِن تھوڑی چیز۔ الظَنِین جمع اظِنَّاء: بے خبر شخص۔

○ ظَنَّ - ظَنًّا ھ کا خیال کرنا، یقین کرنا کہ فرض کرنا کہ، گمان کرنا کہ، ـــ ہ ہ / ہ ہ: کو کوئی شخص یا چیز خیال کرنا، سمجھنا۔ ہ ہ: کسی چیز کو کچھ سمجھنا ــ ہ / ب: پر شک کرنا۔ ظَنَّہ یفعل: کو خیال کرنا کہ وہ کچھ کرنے کا اہل ہے، کے متعلق یقین کرنا کہ وہ کچھ کرے گا۔ لا اظنّ احداً یُنکِرُ: میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ لا اظنّك تخالِفنی: مجھے یقین نہیں کہ تم میری مخالفت یا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ترویدکرسکتے ہو۔ ظَنَّ فیہ القدرۃَ علی: اس نے اسے اس کا اہل سمجھا۔ ظن بہ الظنون: کے متعلق بری رائے رکھنا۔ ظن بہ الغباء کے متعلق شک کرنا کہ وہ بے وقوف ہے۔ اَظَنَّ ہ پر شبہ کرنا۔ تَظَنّی: اندازہ لگانا، قیاس آرائی کرنا۔ ظَـنّ: رائے خیال، فرض کرنا، یقین، شک، تذبذب۔ حُسنُ الظن: اچھی رائے۔ سُوءُ الظن: بدگمانی، عدم اعتماد، بے اعتمادی، شک، شبہ۔ فی اغلب الظن، فی اکثر الظن: غالباً۔ اکثر الظن اَنَّ: غلب گمان ہے کہ، یہ عین ممکن ہے کہ ظناً منہ اَنَّ: چونکہ اس کا یقین تھا کہ حَسُنَ ظَنُّہٗ بہ: کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ اَحْسَنَ الظَنَّ ب: کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ ساءَ بہ ظنّاً: کے متعلق بری رائے رکھنا۔ اَساءَ الظَنَّ ب: کے متعلق بری رائے رکھنا۔ ظَـنِیّ: مفروض، فرض کیا ہوا، احتمالی، فرضی، مفروضہ۔ مَظَنَّۃ جمع مَظانّ: کسی چیز کی توقع کرنے کی جگہ یا وقت۔ وہ جگہ جہاں کسی چیز یا شخص کے ملنے کا غالب امکان ہو۔ اس کا اغلب محل وقوع، شک، شبہ، بے اعتمادی۔ التمستُہ فی مظانّہ: میں نے اسے وہاں تلاش کیا جہاں مجھے اس کو پانے کی توقع تھی یا جہاں غالباً تھا۔ فی غیر مظانّہ: وہ مقامات جہاں وہ نہیں ہوسکتا تھا۔ مَظنُون: فرضی، مفروضہ، فرض کردہ، مشتبہ۔ ظَنُون: مشتبہ، شکی، بدگمان۔ ظَنِین: مشتبہ، مشکوک، ناقابل اعتبار (علی کے بارے میں) مشتبہ شخص۔ ظِنّۃ جمع ظِنَن: شک، شبہ، بے اعتمادی۔

ظنب: الظُنبُوب جمع ظَنَابیب: پنڈلی کا اگلا حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ قَرَعَ ظَنَبَ الامر: اس نے کام آسان کردیا۔ قَرَعَ لِھذا الامر ظُنبُوبَہٗ و ساقَہٗ: اس نے اس کام میں خوب کوشش کی۔

ظہر: ۱۔ ظَھَرَ ۔ ظُھُوراً: ظاہر ہونا، باہر آنا، نمودار ہونا۔ ظَھْراً و ظُھُوراً علی السرّ: راز جان لینا، راز سے مطلع ہونا، آگاہ ہونا۔ ظَھَّرَ الثوب: کپڑے کا ابرہ بنانا۔ بِعِلْمِہٖ اپنے علم پر فخر کرنا، ناز کرنا۔ ظَاھَرَ بَیْنَ الثوبین: دو کپڑے اوپر نیچے پہننا۔ اَظْھَرَ بہ: کا مرتبہ بڑھانا۔ الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ ۔ ہ علی السرّ: کو راز سے آگاہ کرنا، کو راز بتانا، کو راز سے مطلع کرنا۔ تَظَاھَرَ: ظاہر ہونا۔ بالشیءِ: کو ظاہر کرنا۔ الظِھَارۃ من الثوب: ابرہ یعنی دوہرے کپڑے کی اوپر کی تہہ۔ الظُھُور (مص): عید الظہور عند المسیحیین: عید تجلی، حضرت عیسیٰ کی معجزانہ تبدیل ہیئت کا دن۔ الظَاھِر (فا): بیرونی، واضح۔ عند النحویین: اسم جو ضمیر نہ ہو۔ اسے المُظْھَر بھی کہا جاتا ہے۔ ظاھر البلد: بیرون شہر۔ الظاھرۃ ج ظاھرات و ظواھر: ظاہر کا مؤنث۔ ۔ من العیون: ابھری ہوئی آنکھ۔ ظَاھِرۃ الجبل: پہاڑ کی چوٹی۔ الظَواھِر: بلند وادیاں بلند زمینیں۔ الظَاھِرِیّۃ: مذہب جو کہتا ہے کہ معرفت مظاہر یا محسوس حوادث میں محدود ہے۔ المَظْھَر: ظہور کی جگہ۔ المُظْھَر (مفع) عند النحاۃ: اسم جو ضمیر نہ ہو۔ اسے الظاہر بھی کہا جاتا ہے۔

۲۔ ظَھَرَ ۔ ظَھْراً و ظُھُوراً البیتَ: گھر پر چڑھنا۔ ۔ علیہ: پر برتر ہونا، پر غالب ہونا۔ ۔ بفلان: پر غالب ہونا۔ اَظْھَرَ ہ علی عدوہ: کو دشمن پر غالب کرنا۔ اِسْتَظْھَرَ علیہ: پر چڑھنا۔ غالب آنا۔

۳۔ ظَھُرَ ۔ ظَھَارۃً: مضبوط پیٹھ والا ہونا۔ ۔ ظَھَرَ ہٗ: کی پیٹھ پر مارنا۔ الشیءَ و بہ: کو پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ ۔ ظَھْراً و ظُھُوراً بحاجتی: حاجت کو ہلکا جان کر اس کو پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ ظَھِرَ ۔ ظَھَراً: پیٹھ میں شکایت ہونا، صفت: ظَھِر۔ ظَھَّرَ و اِظَّھَّرَ حاجتی: حاجت کو پیٹھ پیچھے ڈالنا اور بھلا دینا۔ اَظْھَرَ الشیءَ: کو پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ تَظَاھَرَ القومُ: ایک دوسرے سے دور ہونا، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ موڑنا۔ اِسْتَظْھَرَ: احتیاط کرنا۔ ۔ الشیءَ: بچانے کے لئے کسی چیز کو پیٹھ پیچھے کرنا۔ لہٗ: کے لئے تیار ہونا۔ الظَھْر (مص) جمع اَظْھُر و ظُھُور و ظُھْران: پیٹھ کہا جاتا ہے۔ لاتجعل حاجتی بِظَھْرٍ: میری حاجت کو نہ بھولنا اور اپنی پیٹھ پیچھے نہ رکھنا۔ قَلَّبَ الامرَ ظَھْراً لبطنٍ: اس نے بات کو خوب الٹا پلٹا، معاملہ اچھی طرح طے کیا۔ قلب لہ ظَھْرَ المجنّ: وہ اس کے لئے بدل گیا اور دشمنی کی۔ ظَھْرُ الانسان پیٹھ۔ قِدرٌ ظَھْرٌ: پرانی ہانڈی۔ الظَھْر: لدو اونٹ، سخت زمین کہا جاتا ہے۔ اعطاہ عن ظَھْرِ یدٍ: اس نے اسے از خود بغیر بدلے کے دیا۔ قَتَلَہ ظَھْراً: اس نے اسکو اچانک مار دیا۔ ھو یا کل علی ظَھْرِ یدی: وہ میرے ہاتھ سے کھاتا ہے یعنی میں اس پر خرچ کرتا ہوں۔ ھو نازل بین ظھریھم و ظھرانیھم و بین اَظْھُرِھم: وہ ان کے درمیان اترا۔ رأیتُہٗ بین ظَھْرانَی اللیل: میں نے اسکو عشا اور فجر کے درمیان دیکھا۔ الظِھْرۃ: کہا جاتا ہے: جعل حاجتی ظِھْرِتَہٗ: اس نے میری حاجت کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا اور بھول گیا۔ الظِھْرِیّ جمع ظَھَارِیّ: فراموش شدہ۔ ضرورت کے لئے تیار رکھا ہوا اونٹ۔ ظُھارۃ الدابّۃ: جانور کی پیٹھ پر اسکی حفاظت کے لئے رکھی جانے والی چیز۔ الظَھِیر: مضبوط پیٹھ والا، جسے پیٹھ [illegible] الظَھِیر [illegible] مونث۔ المُظْھِر (فا): سواری والا۔ المُظَھَّر مضبوط پیٹھ والا۔

۴۔ ظَھَرَ ۔ ظَھْراً و ظُھُوراً علیہ: کی مدد کرنا۔ ظَاھَرَ مُظَاھَرۃً و ظِھاراً ہٗ: کی معاونت کرنا۔ تَظَاھَرَ القومُ: ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس سے ہے تَظَاھر الناسُ تظاھُرۃً جمع تظاھرات: لوگوں کا اکٹھے ہو کر سڑکوں پر آنا اور اپنے کسی کام کا مطالبہ کرنا۔ اِسْتَظْھَرَ بہ: سے مدد مانگنا۔ الظِھْرۃ: مدد۔ و الظُھْرۃ: مددگار و معین کہا جاتا ہے۔ جاء نا بظِھْرَتہ و بظُھْرَتہ و بظَھَرَتِہٖ: وہ اپنی قوم اور قبیلہ کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ ظَاھِرۃُ الرجُلِ آدمی کا کنبہ۔ الظَھِیر: مددگار۔

۵۔ ظَھَرَ و اَظْھَرَ: دوپہر میں چلنا یا داخل ہونا۔ الظُھْر جمع اَظْھَار: دوپہر، نصف النہار کی گھڑی۔ الظَھِیرۃ: دوپہر، نصف النہار کی حد۔

۶۔ اَظْھَرَ الکتابَ: کتاب کو ازبر پڑھنا۔ اِسْتَظْھَرَ الدرسَ: سبق کو حفظ کرنا اور ازبر پڑھنا۔ الظَھْر: جو آپ سے اوجھل ہو کہا جاتا ہے۔ قرأہٗ علی ظھر قلبہ او من ظھر القلب او علی ظھر لسانہ: کو حفظ کر کے کتاب کے بغیر پڑھنا، کہا جاتا ہے۔ قرأہٗ ظاھراً: حفظ کر کے کتاب کے بغیر پڑھنا۔

۷۔ الظَھْر: بہت سا مال، خشکی کا راستہ کہا جاتا ہے: ساروا فی طریق الظَھْر: وہ خشکی کے راستے چلے۔ ۔ جمع الظُھران: تیر کے پر کا چھوٹا۔ پہلو۔ الظَھَرۃ: گھر میں موجود سامان اور کپڑے۔ الظُھَار: تیر کے پر کا چھوٹا پہلو۔

۸ ظَھَرَ ۔ ظُھُوراً: دکھائی دینا، محسوس ہونا، صاف واضح اور بین ہونا، آشکار ہونا (ل: کو) معلوم ہونا، پتہ چلنا، نمودار ہونا، نظر آنا، دکھائی دینا، ظاہر ہونا۔ ۔ ل: کو دکھائی دینا۔ ۔: بیماری کا پھوٹ پڑنا، باہر آنا، ظاہر ہونا (کتاب رسالہ وغیرہ) کا چھپنا، شائع ہونا۔ ۔ من: سے پیدا ہونا۔ ہ: پر چڑھنا۔ ۔ علی: پر بالا دستی حاصل کرنا، فتح یاب ہونا، کا بہتر حصہ لینا، پر غالب آنا، غلبہ حاصل کرنا، کو فتح کرنا، کو نیچا دکھانا، کو اپنے تسلط میں لینا، سے واقف ہونا، کا علم ہونا، سے مطلع ہونا، سے شناسا ہونا، کو جاننا، کے متعلق اطلاع پانا، جاننا، آگاہ ہونا، کو سیکھنا۔ ظَھَّرَ (ہ): ہنڈی کی پشت پر دستخط کرنا۔ ظَاھَرَہٗ: کی مدد کرنا، تائید کرنا۔ اَظْھَرَ ہ: کو ظاہر کرنا، دکھانا، پیش کرنا، کا اعلان کرنا، کو تفصیل سے سمجھانا۔ ہ: فلم ڈویلپ کرنا۔ ہ علی: کو پر فتح یاب کرنا، کو سے واقف کرنا، کو میں شامل کرنا، کو کے بارے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

میں معلومات دینا، کو کی اطلاع دینا، کو کے متعلق آگاہ کرنا، سے کی وضاحت کرنا، کو کچھ دکھانا، پر کچھ ظاہر کرنا۔ تَظَاهَرَ ب.کو واضح کرنا، دکھانا، کی نمائش کرنا، کی نمود و نمائش کرنا، کا تصنع کرنا، کا بہانہ کرنا، (کچھ) سننا، کی نقل کرنا۔ ــ:مظاہرہ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ -- علی :کے خلاف متحد ہونا۔ استَظْهَرَ ہ کو دکھانا، بے نقاب کرنا ۔ ہ کو زبانی یاد کرنا۔ ب نے سے مدد چاہنا، سے مدد کی اپیل کرنا۔ علی پر غالب آنا، کو فتح کرنا، زیر کرنا، پر بالا دستی حاصل کرنا، کا بہتر حصہ لینا۔ ظَهر ذ یگی لوہا۔ ظَهْرُ الحديد و زهر الحديد و حديد الظهر ذ یگی لوہا۔ ظَهْرجمع ظُهُور و اُظْهُر: پشت، پیٹھ، عقب، عقبی حصہ، پچھلا حصہ، پچھلی طرف، پچھلا پہلو، الٹ، ڈسٹ کور کا مڑا ہوا حصہ، کتاب کے شروع یا آخر کا ورق (Fly leaf) عرشہ جہاز (Deck) اوپر کا حصہ، چوٹی، سطح۔ ظُهُورَات: عارضی۔ سلنسلة الظهور ریڑھ، فقرات۔ ظَهْراً لبطن: الٹا، اوندھا، الٹ پلٹ، درہم برہم۔ ظَهْراً علی عقب یکسر، بالکل، مکمل طور پر۔ بظهر الغيب: کسی کی پیٹھ پیچھے، چھپ کر، عیاری سے، دغا بازی سے، خفیہ طور پر، چوری چھپے۔ بين اَظْهُرِهم :کے درمیان، ان میں۔ من بين اظهرنا ہمارے درمیان سے، ہم میں سے۔ على ظهر الباخرة دخانی جہاز پر۔ عن ظهر القلب، عن ظهر قلب، يا عن ظهر الغيب زبانی، از بر۔ مستخدم ظهورات: عارضی ملازم۔ ظُهرجمع اَظْهار ذ دوپہر، دن کا وسط، دوپہر کی نماز (مونث) بعدَ الظُهر سہ پہر تیسرے پہر ۔قبل الظهر ذ دوپہر سے پہلے۔ نبذه (طرحه) ظِهْرِيا پر کوئی توجہ نہ دینا، کی پرواہ نہ کرنا، کو نظر انداز کرنا۔ ظَهِير مددگار، تائید کنندہ، پشت پناہی کرنے والا، بیک (کھیلوں میں) حُبُّ الظُهور دکھاوے کا شوق۔ الظَهْران ذہران، سعودی عرب میں تیل کے وسیع علاقہ کا ایک شہر۔ بين ظَهرانيهم: ان کے درمیان، ان میں۔ ظَهِيرة ذ دوپہر، دن کا وسط، دن کے وسط کی گرمی۔ أظْهَرَ زیادہ واضح، زیادہ صاف، زیادہ ظاہر، زیادہ آشکار۔ مظْهُرجمع مَظَاهِر (بیرونی) ظہور، بھیس، رویہ، چال چلن، منظر، چہرہ، شکل، صورت، رخ پہلو۔جمع مَظَاهر اظہارات۔ مظاهِر الحياة زندگی کے اظہارات۔ في المَظْهَر :خارجی طور پر، بیرونی ظہور میں، ظاہری طور پر، بظاہر، نظر بظاہر۔ تظهير ہنڈی کی پشت پر دستخط، ہنڈی کی پشت پر دستخط کے ذریعہ، ایک سے دوسری جگہ منتقلی۔ ظِهَار: اسلام سے قبل طلاق کی ایک شکل جس میں طلاق دینے والا اپنی بیوی کو کہتا تھا۔ انتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اميّ: تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہے۔ مُظَاهَرة مدد، تائید، پشت پناہی، جمع مُظَاهرات: عوامی مظاہرہ، ریلی۔ تَظَاهر مکاری، منافقت، تصنع، بناوٹ کچھ اور بن بیٹھنا۔ جھوٹ موٹ کچھ بننا۔ جمع تظاهرات عوامی مظاہرہ، ریلی۔ ظاهر جو دکھائی دے، جو محسوس ہو، بین واضح، ظاہر، صاف، نمایاں، خارجی، بیرونی دیکھنے میں، بظاہر، دکھاوے کا، بناوٹی، فرضی، مبینہ، ظاہری صورت یا حالت، سطح، شہر کے دور افتادہ علاقے۔جمع ظواهر بیرونی حس احساس، لفظی معنی۔ ظاهر اللفظ کسی بات کا لفظی معنی۔ الظَاهر أن: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ۔ حسبَ الظَاهر بیرونی شکل میں، بیرونی طور پر، خارجی طور پر۔ في الظاهر بظاہر، ظاہر، نظر بہ ظاہر، ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔ في الظَاهِر و في ظاهر الامر : بظاہر نظر بظاہر۔ من الظاهر : باہر سے۔ ظَاهِرَة مظہر عجیب و غریب واقعہ، بیرونی نشان یا علامت، بیرونی علامت۔ ظواهر الحيات: حیاتیاتی مظاہر۔ علم الظواهر الجوية موسمی پیش گوئی کا فن، موسمیات۔ متظاهرجمع متظاهرون: مظاہرہ کرنے والا۔

ظَوت: الظوءة احمق آدمی۔

ظَاف: طَاف ـُطَوفَاهُ: کو دھتکارنا، دفع کرنا۔ ظُوفُ و ظَافُ الرقبةِ گردن کا چمڑا یا کھال کہا جاتا ہے۔ تركته بظُوفِ رقبته او بِظافِها میں نے اس اکیلا چھوڑ دیا۔

ظوی: أظْوَى بیوقوف ہونا، نادان ہونا۔ الظِيَة سڑنے والی لاش۔ الظَيّ والظَيَّان شہد۔ المَظواة والمَظْياة من الاراضى زمین جہاں بہت شہد پایا جاتا ہو۔

ظيا: ظَيَّأَ تَظْيِئاً ہ کو غمگین کرنا۔ الظَيَأَة احمق آدمی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ع

ع تلفظ عَین حروف تہجی کا اٹھارھواں، حروف ابجد میں ستر کے عدد پر مشتمل ہے۔

عب ۱۔ عَبَّ ـُ عَبًّا الماءَ: پانی سانس لئے بغیر یا برتن میں جھک کر اور منہ لگا کر پینا۔ ـــ الدلوُ بھرتے وقت ڈول کا گڑ گڑ کرنا۔ تَعَبَّبَ النبیذَ: شراب کو ڈگڑا کر پینا۔ العَبَاب: پانی پینا، کہتے ہیں۔ اذا أصابت الظباءُ الماءَ فلا عَبَاب وان لم تصبه فلا اباب: یہ مثال اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کر کے اس سے بے نیاز ہو جائے۔

۲۔ عَبَّ ـُ عَبًّا چہرے کا تغیر کے بعد خوبصورت ہونا۔

۳۔ عَبَّ ـُ عُبَابًا البحرُ: سمندر کی موجوں کا بلند ہونا اور بڑھ جانا۔ العَبّ: اولا۔ عَبُّ الشمس: آفتاب کی روشنی۔ العُبُب: اچھلتا پانی۔ العُبَابُ: بڑا سیلاب، سیلاب کا چڑھاؤ۔ عُبَابُ البحر: سمندر کی موج، لہر کہا جاتا ہے۔ جاؤوا بِعُبَابهم: وہ سب کے سب چلے آئے۔ العُبِّيَّه والعِبِّيَّة: غرور، فخر، تکبر۔ اليَعبُوب جمع يَعَابِيب: بہت پانی والا تیز رو دریا۔ لمبا تیز رفتار گھوڑا، بادل۔

۴۔ الأَعَبّ محتاج فقیر، سخت ناک والا۔ العُبّ جمع عِبَاب: آستین کا کنارہ، آستین کی گردن سینہ چھاتی، کہتے ہیں۔ وَضَعه فی عبه: اس نے اس چیز یا بات کو سینے میں چھپالیا۔

۵۔ عَبْعَبَ الجیشُ: لشکر کا شکست کھا جانا۔ تَعَبْعَبَ الشیَٔ: کسی چیز کو بالکل برباد کر دینا۔ العَبْعَب چوڑا کپڑا، نرم کمبل جو اونٹ کے بالوں سے بنا ہو۔ ـــ والعَبْعَاب بلند قامت آدمی۔ کشادہ حلق اور توند والا۔ خوبصورت اور کامل خلقت والا۔

○ عَبَّ ـُ عَبًّا ہ: کو لمبے لمبے گھونٹوں میں پی ڈالنا۔ نگل جانا۔ ـــ ہ (مشروب) کو، انڈیل دینا۔ ـــ ہ کو چڑ چڑ پی جانا، کا سڑ پا لگانا۔ کو سُڑ کنا۔ عُبّ و عِبّ: چھاتی کی جیب۔ عُبُــاب: تیز دھاریں، سیلاب، موجیں لہریں، سمندر یَعْبُوبُ تند و پرشور دریا۔

عبأ ۱۔ عَبَأَ ـَ عَبْأً المتاعَ: سامان تیار کرنا۔ ـ الجیش للحرب: لڑائی کے لئے لشکر کو تیار کرنا۔ الی فلان وله: کا ارادہ کرنا۔ لا أَعْبَأُ بِهِ: میں اس کی تو بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ عَبَّأَ تَعْبِئَةً و تَعْبِيئًا المتاعَ: سامان تیار کرنا۔ ـــ الجیشَ للحرب: لشکر کو لڑائی کے لئے تیار کرنا۔ التَعْبِئَة (مص) (ا ع): ریاست کی تمام قوتوں کو جن میں مرد اور سامان جنگ گولہ بارود وغیرہ شامل ہیں جنگ کیلئے تیار کرنا۔

۲۔ إعْتَبَأَ ما عنده جو کچھ اس کے پاس ہو لے لینا۔

۳۔ العِبْءُ جمع أَعْبَاء: بوجھ، گٹھری، بوری۔ ـــ والعَبْءُ جمع أَعْبَاء: مثل و نظیر۔ العَبَاء جمع أَعْبِئَة والعَبَاءَة چوغہ۔ المَعْبَأ: راہ۔

○ مَا عَبَأَ: کی پروانہ کرنا، پر کوئی توجہ نہ دینا، کو کوئی اہمیت نہ دینا، پر اصرار نہ کرنا۔ لا يُعْبَأُ به: غیر اہم۔ غیرُ عَابِئ: غیر جانبدار، نہ ادھر نہ اندھر، نہ حامی نہ مخالف۔ عَبَّأَ ہ: کو تیار کرنا، کا انتظام کرنا۔ ـــ ہ کی صف بندی کرنا۔ جیشًا: فوجوں کو حرکت میں لانا۔ ـــ ہ ب: کو سے بھرنا، کو اس میں کچھ ڈال کر بند کرنا، پر سامان لادنا۔ ـــ ہ فی کو میں انڈیلنا۔ ـــ ہ کو بوتل میں ڈالنا یا بھرنا۔ عِبْءٌ جمع أَعْبَاء علی: پر بوجھ پر بار۔ عِبْءُ الإثبات: ثبوت کا بوجھ (burden of proof) نهض او قام بالاعباء كُلِّها: سارے بوجھ اپنے اوپر لے لینا، تمام بوجھ اٹھانا۔ تَعْبِئَة: (فوجوں کا) اجتماع mobilization خاص دستہ کی تیاری (drafting)، فوج میں جبری بھرتی۔ (Conscription) بوتلیں بھرنا۔

عبث ۱۔ عَبَثَ ـِ عَبْثًا الشیَٔ بالشیٔ: ایک چیز کو دوسری سے ملا دینا۔

۲۔ عَبِثَ ـَ عَبَثًا: کھیل کود کرنا، مذاق کرنا۔ ـــ بالدین وغیرہ: دین وغیرہ کی توہین کرنا صفت۔ عَابِث وعِبِّيث۔ العَبَث (مص): لغو، بیہودہ، کہتے ہیں۔ فعل ذلك عَبَثًا: اس نے یہ کام لغو کیا۔ عَبِيثَةُ الناس: بھیڑ، ہجوم، اراذل۔

۳۔ عَبَوْثُران وعَبَيْثُران (ن): ایک خوشبودار پودا (ثاء کے فتحہ کے ساتھ بھی آتا ہے)۔

○ عَبِثَ ـَ عَبَثًا حماقت کرنا، ادھم مچانا۔ ـــ ب: سے مذاق کرنا، سے دل بہلانا، یونہی کسی چیز کو ہلاتے رہنا، کو خوش اسلوبی سے نبٹانا، سے نبٹنا۔ سے بے ڈھنگے پن سے کام لینا، کو غلط یا ناجائز استعمال کرنا، کے خلاف جرم کرنا، کی خلاف ورزی کرنا، سے تجاوز کرنا، کو نقصان پہنچانا، عَابَثَ ہ: سے چھیڑ چھاڑ کرنا، سے اپنا دل خوش کرنا۔ سے دل لگی کرنا، سے چال چلنا۔ عبثًا: فضول، بیکار، لاحاصل، بے فائدہ، یونہی، من العبث ان (ایسا کرنا)، احمقانہ اور بے فائدہ ہے۔ ولکن عبثًا استطاع ان یُجیبَهُ لیکن: وہ اسے جواب نہ دے سکا۔

عبد ا۔ عَبَدَ ـُ عِبادَةً و عُبُودَةً و عُبُودِيَّةً و مَعْبَدًا و مَعْبَدَةً اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے خشوع و خضوع کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، کہتے ہیں۔ مَا عَبَدَكَ عنی: تجھے کس چیز نے مجھ سے روکا۔ عَبُدَ ـُ عُبُودَةً و عُبُودِيَّةً: آباؤ اجداد سے غلامی میں چلے آنا۔ عَبَّدَه: کو فرمانبردار

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بنانا، غلام بنالینا۔ — الطریقَ: راستہ یا سڑک بنانا پختہ کرکے آمدورفت کے لائق بنانا۔ — البعیرَ: اونٹ کو قطران ملنا، کہا جاتا ہے۔ مَاعَبَّدَ ان فعل کذا: اس نے ایسا کرنے میں دیر نہیں کی۔ اَعْبَدَهُ الغلامَ: کو لڑکے کا مالک بنانا۔ — الغلامَ: کو غلام بنانا۔ تَعَبَّدَ: عبادت کیلئے علیحدہ ہونا۔ — ہٗ: کو فرمانبرداری کے لئے بلانا، کو غلام بنانا، — سے اپنے غلام کا سا برتاؤ کرنا۔ اِعْتَبَدَ و اسْتَعْبَدَهٗ: کو غلام بنانا۔ العَبْدُ جمع عَبِید وعِبَاد و عَبَدَة و عَبْدُون و اَعْبُد و عُبْدَان وعِبْدان و عِبِدّان و اَعْبَاد و جمع اَعَابِد و مَعَابِد و اَعْبِدَة: انسان، آزاد ہو یا غلام۔ غلام مملوک، حبشی۔ عبدٌ قِنٌّ و عبدُ قِنٍّ: خالص غلام، خاندانی غلام، العِبَاد عَبْد کی جمع۔ حیرۃ کے چند عرب نصرانی قبیلے، نسبت کے لئے عِبَادِیٌّ آتا ہے۔ العَابِد (فا) جمع عَبَدَة و عُبَّاد و عَابِدُوْن م عَابِدَة جمع عابدات وعَوَابِد: خادم۔ العَبْدِيَّة و العُبُودَة و العُبُودِيَّة والتَّعْبِيدَة: غلامی (آقاؤں کی)۔ اطاعت۔ المَعْبَد جمع مَعَابِد والمُتَعَبَّد: عبادت گاہ۔ المُعَبَّد (مفع) مُعَظَّم و مُکرَّم، پختہ سڑک۔

۲۔ عَبِدَ — عَبَدًا و عَبَدَةً ہٗ: سے لگا رہنا، جدا نہ ہونا۔ — علی الشيء: کا حریص ہونا۔ صفت عَابِدٌ و عَبِدٌ۔ العَبَدَة: بقاء۔

۳۔ عَبِدَ — عَبَدًا و عَبَدَةً الرجلُ: نادم ہونا۔ علی نفسه: اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ — ما قاله: اپنے کا انکار کرنا۔

۴۔ عَبِدَ — عَبَدًا و عَبَدَةً علی فلانٍ: پر غضبناک ہونا ہے۔ — منه: پر ناک بھنویں چڑھانا۔ العَبَدَة: خود داری، شرمیلا پن، شرم، حقارت۔

۵۔ عَبَّدَ الرجلُ: جلدی کرنا، بھاگ جانا، کہتے ہیں۔ عَبَّدَ یعدو: وہ کچھ تیز دوڑا۔ تَعَبَّدَ القومُ: قوم کا متفرق ہونا۔ العَبَادِید و العَبَابِید: (واحد کے بغیر): لوگوں کے فرقے یا گھوڑوں کے گلے، دور دراز راستے۔

۶۔ اَعْبَدَ القومُ: اکٹھے ہونا جمع ہونا۔

۷۔ العَبَدَة: طاقت، موٹاپا۔ — دَرَاهِمُ عَبْدِيَّة: قدیم درہم۔ المِعْبَد جمع مَعَابِد: کسی، پھاوڑا۔ المُعَبَّد: میخ کھونٹی۔

۸۔ عَبَدَ — عِبَادَةً و عُبُودَةً و عُبُودِيَّةً ہٗ: (خدا، اللہ تعالیٰ، دیوتا، بت) کی بندگی کرنا، کا بندہ ہونا، کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا۔ — ہٗ: (اللہ تعالیٰ یا انسان) کی بندگی کرنا، پرستش کرنا۔ کو پوجنا کی تعظیم کی کرنا، کا احترام کرنا، سے عقیدت رکھنا، کو مثالی سمجھنا، دیوی، دیوتا بنانا، پوجنا، معبود ٹھہرانا۔ عَبَّدَهٗ: کو غلام بنانا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، کو زیر نگین کرنا، کو محکوم بنانا۔ — ہٗ: سڑک بنانا، کو آمدورفت کے قابل بنانا۔ تَعَبَّدَ: اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقف کرنا، نذر کرنا، مخصوص کرنا۔ اِسْتَعْبَدَهٗ: کو غلام بنانا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، کو زیر نگین کرنا، عَبْدٌ جمع عَبِید عُبْدان و عِبدان: غلام، زمین کیساتھ بک جانے والا غلام، کاشتکار، نوکر، ملازم جمع عِبَاد: اللہ کا بندہ، انسان، العِبَاد: انسانیت، نوعِ انسانی، عبد اللّلاوی و عبد لاوی: خربوزہ کی ایک قسم، عَبْدَة جمع عبدات: لونڈی، زمین کیساتھ بک جانے والی لونڈی۔ عَبَّادالشمس عَبَّادَةُ الشمس: سورج مکھی۔ عِبادة: عبادت، پرستش، پوجنا، تعظیم، احترام، عِبادات: عبادت، پوجا پاٹ۔ تعبید الطرق: سڑک کی تعمیر، عابد جمع عابدون وعُبَّاء و عَبَدَة: عبادت کرنے والا۔ معبود: جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، معبود، دیوتا، خدا، اللہ۔ مُعَبَّد: قابل گزر، ہموار، پختہ (سڑک)۔ عَبَدان: مغربی ایران کا جزیرہ اور شہر، تیل کا مرکز۔

عبر: ۱۔ عَبَرَ — عَبْرًا: غم زدہ ہونا، کا آنسو بہنا۔ — العینُ: آنکھ کا آنسوؤں سے ڈبڈبانا۔ عوام کہتے ہیں عبرت العینُ علیه: کی حرمت جاتی رہنا۔ عَبِرَ — عَبَرًا: کا آنسو بہنا، صفت عَابِر (مذکر و مونث) عَبَّرَ به الامرُ: کام کا کسی پر دشوار ہونا۔ اسْتَعْبَرَ: آنسو بہانا، غمگین ہونا۔ و — ت العینُ: آنکھ کا ڈبڈبا آنا۔ العُبْر: وہ عورت جس کا بچہ گم ہوگیا ہو۔ — والعَبَر: آنکھ کی گری جو رلاتی ہے۔ العَبِر م عَبِرَة و العَبْران م عَبْرَی جمع عَبَارَی: غمگین، آنسو بہانے والا، اشکبار۔ العَبْرَة جمع عِبَر و عَبَرات: آنسو، غم۔

۲۔ عَبَرَ — عَبْرًا الدراهمَ: درہموں کو پرکھنا۔ — الکتابَ: کتاب کا خاموش مطالعہ کرنا۔ — عَبْرًا وعِبارةً الرُؤْیا: خواب کی تعبیر کرنا۔

عَبِرَ — عَبَرًا منه: سے عبرت حاصل کرنا۔ عرب کہتے ہیں: اللّٰهمَّ اجعلنا ممن یعبرُ الدنیا ولا یعبرُها: اے خدا ہمیں ان لوگوں سے کر جو دنیا سے عبرت حاصل کرتے اور بغیر تیری رضا مندی حاصل کیے جلدی سے نہیں مرجاتے۔ عَبَّرَ الرؤیا: خواب کی تعبیر کرنا — عما فی نفسه: دل کی بات ظاہر کرنا، مافی الضمیر کا اظہار کرنا — عن کذا: کے بارے میں کہنا، بات کرنا۔ الدراهم: درہموں کا وزن کرنا اور ان کی مالیت معلوم کرنا۔ اعتبر الشيء: کو آزمانا، شمار کرنا۔ — الرجلَ: پر اعتبار کرنا۔ — منه: پر تعجب کرنا۔ — به: سے نصیحت حاصل کرنا۔ اِسْتَعْبَرَ الدراهمَ: دراہم کو پرکھنا اور شمار کرنا۔ — ہُ الرؤیا والدراهمَ: سے خواب کی تعبیر اور درہموں کی مالیت بتانے کے لئے کہنا۔ العابر جمع عَابِرُون و عُبَّار و عَبَرَة م عابرة: غور کرنیوالا۔ العِبْرَة جمع عِبَر: نصیحت (کہتے ہیں۔ لك بفلانٍ عِبْرَة: تیرے لئے فلاں شخص میں نصیحت ہے) تعجب۔ وہ اصل جو نظائر کا مرجع ہو۔ حالات پر نظر۔ العِبارة (مص): عَبَرَ کا اسم معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ، کہا جاتا ہے فلانٌ حسنُ العبارة: فلاں شخص خوش بیان ہے۔ هذا عِبارةٌ عن کذا: یہ اس کے ہم معنی ہے اور دلالت میں برابر ہے۔ مقدار یا ترکیب یا افادۃ۔ العَبَّار: خوابوں کی تعبیر کرنے والا۔

۳۔ عَبَرَ — عَبْرًا و عُبُورًا السبیلَ: راستہ طے کرنا، گزرنا، مرنا۔ — النهرَ و الوادی: نہر یا وادی عبور کرنا۔ — به الماءَ: کو پانی پار کرانا۔ عَبَّرَهٗ بالماء: کو پانی پار کرانا، کو پانی سے گزارنا۔ — به: کو ہلاک کرنا، العابر (فا) جمع عابرون و عُبَّار و عَبَرَة م عابرة: گزرنے والا، کہا جاتا ہے۔ دخل عابرَ سبیلٍ: وہ داخل ہوا، بغیر ٹھہرے، گزرتے ہوئے۔ العَابُور: نقل مکانی کرنے والے پرندے۔ العُبْر: مضبوط قوی (واحد جمع، مذکر مونث) کہا جاتا ہے۔ جمالٌ عُبْرُ اَسفار: یعنی چلنے میں قوی اونٹ۔ —: بہت تیز چلنے والے بادل۔ العُبْر والعِبْر: قوی، مضبوط (واحد جمع مذکر مونث) کہتے ہیں۔ جمال عِبْرُ اسفار: چلنے میں قوی اونٹ۔ فلانٌ عِبْرٌ لکلِّ عمل: فلاں ہر کام کے لائق اور اس کا ماہر ہے۔ — من الوادی: دریا کا ساحل اور کنارہ۔ العَبْرَة جمع عِبَر و عَبَرَات: عبر کا اسم مرۃ۔ العَبَّار: عابر کا اسم مبالغہ۔ جَمَلٌ عَبَّار: چلنے میں قوی اونٹ المَعْبَر: گزرگاہ، گھاٹ۔ المِعبَر والمِعبَرَة: دریا عبور کرنے کا ذریعہ، جیسے کشتی پل۔

۴۔ العُبْرُ: ہر چیز کی زیادتی، انسانوں کا گروہ، بھیڑ۔ (خ): عقاب۔ مجسٌ عَبْرٌ و مجلسٌ عِبْرٌ: بہت سے آدمیوں کی مجلس۔ بنات عِبرٍ: جھوٹ، باطل، ابو بنات عِبر: جھوٹا۔ العِبْرِی و العِبْرانی: یہودی۔ یہودیوں کی زبان العِبْرانیَّة: یہودیوں کی زبان، یہودیت۔ العَبِیر: مرکب خوشبو، سهمٌ عُبَیر: بہت سے پروں والا تیر۔ قوم عُبَیر: بہت سے لوگ۔ المُعْبَر: بہت سے بالوں یا پروں والا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

○ عَبَرَ ـ عَبْرًا وعُبُورًا ۱ : کو پار کرنا، کو قطع کرنا، میں سے گزرنا، کو پایاب مقام سے پار کرنا، میں سے ہوکر گزرنا، کے اوپر سے گزرنا، کو کشتی میں پار کرنا۔ ــــ: (وقت کا) گزرنا، مرجھانا، نمٹنا، مرجانا۔ عَبِرَ ــــ عَبَرًا: آنسو بہانا۔ عَبَّرَ ہ: خواب کی تعبیر بتانا ــــ عن: کو صاف صاف بیان کرنا۔ کا اعلان کرنا، کو وثوق سے کہنا، کا اظہار کرنا ــــ ہ: سکہ کا وزن متعین کرنا، کو وزن کرنا۔ اِعْتَبَرَ: نصیحت حاصل کرنا، خبردار کیا جانا، سبق حاصل کرنا ــــ ب: سے سبق حاصل کرنا، سے عبرت حاصل کرنا ــــ ہ: کو خیال کرنا، سمجھنا، کو وزن کرنا، کو حساب میں رکھنا۔ ہ/ ہہ: کو کچھ سمجھنا۔ ــ ہ: کی عزت کرنا، احترام کرنا، کا پاس کرنا۔ اِسْتَعْبَرَ: آنسو بہانا، رونا۔ عَبْرۃ جمع عَبَرات و عِبَر: آنسو۔ عِبْرۃ: عبرت، مثال، سبق، نصیحت، قاعدہ، وعظ و نصیحت، پند و مواعظت، اہم بات چیز وغیرہ فیصلہ کن (بات) مَوْطِنُ العبرۃ: اہم نقطہ فیصلہ کن یا قطعی نقطہ۔ لاعِبرۃ بہ: یہ بات توجہ کی مستحق نہیں، اہم نہیں۔ العِبرۃ ب/ فی: فیصلہ کن یا قطعی عامل یا عوامل یہ ہے یا یہ ہیں۔ فیصلہ کن بات یہ ہے۔ لاعبرۃ ملن: اگر کوئی...... تو یہ بات اہم نہیں۔ بِعبارۃ اُخری: دوسرے لفظوں میں عبارۃ فعبارۃ: جملہ بہ جملہ، لفظ بہ لفظ۔ عبارۃ عن: پر مشتمل، کے مترادف، کے مساوی، کا ہم معنی، کا معنی مَعْبَر جمع مَعابر: عبور کرنے کی جگہ، گزرگاہ، پایاب مقام، تنگ درہ، گھاٹی، لوہل۔ مِعْبَر: عبور کرنے کا ذریعہ، گھاٹ، گھاٹ کی پار لے جانے کی کشتی، پل۔ تَعْبِیر: اظہار، اصطلاح بِتعبیر آخر: دوسرے لفظوں میں اعتبارًا ل/ ب: کے بارے میں، کے متعلق، کے پیش نظر، اعتبارًا من: سے، سے شروع ہوکر، سے موثر۔ باعتبار الشئ: کے بارے میں، کے پیش نظر باعتبار ان: اس حقیقت کے پیش نظر کہ، باعتبارہ: بحیثیت، بطور، کے الفاظ میں، باعتبارہ اقدم الوزراء: کے سینئر وزیر ہونے کی حیثیت سے۔ بهذا الاعتبار: اس نقطہ نظر سے علی اعتبار ان: اس حقیقت کے پیش نظر کہ علی هذا الاعتبار: اس نقطہ نظر سے۔ فی کل اعتبار: سب پہلوؤں سے، ہر پہلو سے۔ اعتبارًا او حقیقۃً: موضوعی نقطہ نظر سے یا فی الحقیقت۔ صاروخ عابر القارات: بین البراعظمی بیلسٹک میزائل (ICBM)۔

عبس: ا۔ عَبَسَ ـِ عَبْسًا و عُبُوسًا: تیوری چڑھانا۔ ــ الوجهَ: ترش روئی کرنا۔ عَبَّسَ الوجهَ: ترشروئی کرنا ــ وجهَهُ: تیوری چڑھانا۔ تَعَبَّسَ: ترش رو ہونا۔ العُبوس و العَبّاس: بہت ترش رو، شیر۔ یوم عَبوسٌ: سخت دن۔

۲۔ عَبِسَ ـَ عَبَسًا البعیرُ: اونٹ کی دم پر خشک مینگنی ہونا۔ الوسخُ فی یدہ و علیها: کے ہاتھ میں پایا تہ پر میل خشک ہونا۔ اَعْبَسَ الرجلُ: میلا ہونا ــ ت الابلُ: دم پر خشک مینگنی والا ہونا۔ الثوبُ: کپڑے پر میل کا خشک ہوجانا۔ العَبَس: اونٹ کی دم پر خشک مینگنی و پیشاب۔

○ عبرود: بندوق۔

○ عَبَسَ ـِ عَبْسًا و عُبُوسًا: تیوری چڑھانا، ناک منہ چڑھانا، گھورنا، تیز نظروں سے دیکھنا۔ عبس فی وجهه: کو کڑے تیوروں سے دیکھنا عَبُوس: تیوری چڑھانے والا، کڑے تیوروں سے دیکھنے والا، اداس، غمگین۔ عَبُوسہ: تیوری، کڑی تیوری، اداس نظر، اداس چڑچڑا بیزار اور سخت۔ عُبُوس: اداسی، بے کیفی، سختی، سنجیدگی۔ عابس: تیوری چڑھانے والا، کڑے تیوروں سے دیکھنے والا، اداس، غمگین، حزین۔ عَبّاسی جمع عباسیون: عباسی (خاندان سے تعلق رکھنے والا)۔

عبش: عَبَشَ ـُ عَبْشًا الشیئَ: کی اصلاح کرنا، کو درست کرنا۔ العَبْش (مص): درستی، اصلاح ــ والعَبَش و العُبْشۃ: غباوت، کند ذہن ہونا۔ العُبْشۃ والعَبَشۃ: غفلت۔

عبط: ا۔ عَبَطَ ــــ عَبْطًا الذبیحةَ: موٹے تازے جانور کو ذبح کرنا ــ الضرعَ: تھن کو خون آلود کرنا۔ ــ ت الدواهی فلانًا: پر بلا سبب مصیبت پڑنا۔ ــ الکذبَ علیه: پر بلا وجہ جھوٹ بولنا ــ فلانٌ الشیئَ: کو صحیح پھاڑنا ــ الشیئَ: پھٹنا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ عَبَطَهٗ: اس نے اسے بازوؤں میں لے کر چھاتی سے لگالیا۔ اُعْبِطَ هُ الموتُ: بحالت تندرستی و جوانی مرجانا۔ اِعْتَبَطَ الذبیحةَ: موٹا جانور ذبح کرنا ــ هُ الموتُ: بحالت تندرستی و جوانی مرجانا۔ ــ الرجلَ: کو ظلمًا قتل کردینا ــ الرجُلُ: بخار میں مبتلا ہونا، زخمی ہونا۔ العَبْط: گھڑا ہوا جھوٹ، سفید جھوٹ ــ العَبْطۃ: اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے۔ مَاتَ عَبْطَۃً: وہ بحالت تندرستی جوانی میں مرگیا۔ العَبِیط جمع عُبُط و عِباط: وہ ذبح کردہ جانور، جو موٹا تازہ اور تندرست ہو۔ دمٌ عَبِیطٌ: خالص تازہ خون، اَدیمٌ عبیط: پھٹا ہوا چمڑا۔ الحذف الِاعتباطی عند النحاۃ: بغیر کسی علت کے حذف کرنا۔

۲۔ عَبَطَ ــ عَبْطًا الترابَ: مٹی اڑانا۔ ــ ت الریحُ وجه الارض: [illegible]

۳۔ عَبَطَ ـ عَبْطًا الرجلَ: کی غیبت کرنا۔ عِرضَهُ: گالی دینا اور بے آبرو کرنا۔ اِعتبطَ العِرضَ: دینا اور بے آبرو کرنا۔

○ عبیط: کند ذہن، غبی، فاتر العقل، احمق، بے وقوف۔ اعتباطا: یونہی، بے سوچے سمجھے۔ اتفاق سے، من مانے طور پر۔

عبق: ا۔ عَبِقَ ـَ عَبَقًا و عَبَاقَةً و عَبَاقِيَةً الطيبُ به: کو خوش بو لگنا ــ المکانُ بالطیب: کسی جگہ میں خوشبو پھیل جانا، جگہ کا خوشبو سے مہک جانا۔ فلانٌ بالشیئ: کا حریص ہونا، پر فریفتہ ہونا، کا گرویدہ ہونا ــ بالمکان: میں رہائش اختیار کرنا۔ عَبَّقَ رائحةَ الطیب: خوشبو پھیلانا۔ العَبِق: خوشبودار، وہ چیز جس سے خوشبو مہکے۔ رجُلٌ عبقٌ لَبِقٌ: خوش مزاج آدمی۔ العَبَقَة: گھی وغیرہ کا بقیہ، سانس رکنے کا عارضہ۔ العَباقِية: چہرے پر زخم کا نشان۔

۲۔ العَباقِية: مکار اور شاطر آدمی۔

۳۔ عَبْقَرَ عَبْقَرَةً السرابُ: سراب کا چمکنا۔

۴۔ عَبْقَرة: ایک جگہ جس کے متعلق عربوں کا خیال تھا کہ وہاں بہت جن رہتے ہیں۔ العَبْقَرِیّ م عبقریّة: عبقر کی طرف منسوب، سردار، ہر چیز سے برتر۔ جس کا کمال، طاقت اور مہارت تعجب انگیز ہو ــ والعَباقِرِیّ: ایک قسم کا عمدہ قالین۔ العَبْقَرِیّة: عبقری کی کیفیت، شاعر اور ادیب کی قوت تخلیق۔

○ عَبِقَ ـَ عَبَقًا ب: سے چمٹنا، خوشبو کا مہکتے رہنا، خوشبو دینا، خوشبو سے مہکنا، عَبِق: خوشبودار۔ عَبَقَة: سینہ پر دباؤ، سانس گھٹنے کا احساس۔ عابق: خوشبودار۔ عَبْقَر: جنوں کا فرضی مسکن، پرستان، حیرتوں کی سرزمین۔ عَبْقَرِی: رنگین قالین، طباع، خوش تدبیر، ایجاد کا ماہر، اختراع پسند، ملنسار، خوش مزاج، جمع عَبْقَرِیُّون و عَباقِرة: طباع شخص، خوش تدبیر شخص، غیر معمولی ذہین۔

عبك: عَبَكَ ـُ عَبْكًا الشیئَ بالشیئ: چیز کو چیز میں ملانا۔ العَبَكَة: ٹکڑا یا تھوڑی چیز۔ مشک کا میل، رسی کی گرہ، کہتے ہیں۔ یبلی الحبل و تبقی العَبَكَة: رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔

○ عَبَك: اونی کپڑا۔

عبل: ا۔ عَبَلَ ــــ عَبْلًا الشجرةَ: درخت کے پتے جھاڑنا ــ الشجرُ: درخت کے پتے نکلنا ــ الشیئَ: کو کاٹنا ــ به: کو لیجانا۔ اَعْبَلَ الشجرُ: درخت کا نکلے ہوئے پتوں والا ہونا، درختوں کے پتے گرنا ــ العَبَل جمع عُبّال: گرے ہوئے پتے، نکلے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہوئے پتے۔

۲۔ عَبَلَ ـِ عَبْلًا الرحبلَ: رسی بٹنا۔ ـ الشیَٔ: کوردکرنا، کوروکنا۔ اَعْبَلَ الشجرُ: درخت کا لپٹی ہوئی پتیوں والا ہونا۔ العَبَل جمع أعْبَال: لپٹی ہوئی پتیاں۔

۳۔ عَبَلَ ـِ عَبْلًا الشیَٔ: کوروکنا۔

۴۔ عَبِلَ ـَ عَبَلًا و عَبُلَ ـُ عُبُولًا و عَبَالَةً: بڑا ہونا، صفت عَبْل و عَبِل جمع عِبَال و عَابِل جمع عُبَّل م عَبْلَة جمع عَبْلَات و عِبَال: کہا جاتا ہے۔ رجُلٌ عَبْلُ الذراعَین: بڑے بازوں والا آدمی۔ فرسٌ عَبْلُ الشَّوٰی: موٹی ٹانگوں والا گھوڑا۔ اَعْبَلَ: بڑا اور موٹا ہونا، سفید ہونا۔ ـــ العَبَال (ن): پہاڑی گلاب۔ العَبِیل م عَبِیْلَة: بڑا، الأَعْبَل جمع اَعْبلَة: ایک سخت پتھر جو سرخ، سفید اور کالا ہوتا ہے۔ العَبْلاءُ جمع عِبَال: چٹان، سفید چٹان۔ المِعْبَلَة جمع مَعَابِل: تیر کا لمبا چوڑا پھل۔

○ عَبْلٌ جمع عِبَال: گول مٹول، گداز، موٹے (بازو) عَبَال اسم جنس واحد عَبَالَة: ایک قسم کا جنگلی گلاب اَعْبَل: ایک عمارتی پتھر (گرینیٹ)

عبم: عَبُمَ ـُ عَبَامَةً و عَبَامًا: بیوقوف ہونا۔ ماءٌ عُبَامٌ: بہت پانی۔ العَبَام جمع عُبُمْ: تھکاماندہ، سست، موٹا، بیوقوف، بے عقل، بے ادب، بزدل۔

العَبَاماء: بیوقوف

عبن: عَبَنَ ـُ عُبُنًا: کھردرا اور موٹا ہونا۔ صفت: عَبَنّ و عَبَنّی م عَبَنَاة و عَبَنّیات۔

عبه ۱۔ العَبْهَر (ن): نرگس، چنبیلی، ـ و العُبَاهِر: بھرے جسم والا، لمبا۔

۲۔ عَبْهَلَ ہُ: کو عتاب کرنا۔ الإبلَ: اونٹوں کو آزاد چھوڑنا، العَبَاهِل من الإبل: آزاد چھوڑے ہوئے اونٹ۔ العَبَاهِلَة (واحد عَبْهَل): وہ یمنی بادشاہ جو اسلامی دور سلطنت میں بدستور حاکم رہنے دیئے گئے۔

عبا: عَبَا ـُ عَبْوًا: کے چہرے کا دمکنا۔ ـ المتاعَ: سامان تیار کرنا۔ العَبْو (مص): بوجھ، جاريَة عَابِيَة: حسین لڑکی۔

عبی: عَبَّى تَعْبِيَةً الجيشَ: لشکر کو تیار کرنا اور مسلح کرنا۔ تَعَبَّى: تیار ہونا۔ العَبِیّ: حصہ کہتے ہیں۔ هذا عبيك من الجزور: ذبح کردہ جانوروں سے یہ تمہارا حصہ ہے۔ رجُلٌ عَبَاءٌ و عَبًّا: بھاری جسم والا اکھڑ مرد۔ العَبَايَة جمع عَبَايات و عَبِیّ: چوغہ۔

○ عَبّی تَعْبِيَةً ہ ب: کو سے بھرنا، کو میں بند کرنا، پیک کرنا، بندوق وغیرہ میں گولی وغیرہ بھرنا، میں کارتوس یا بجلی بھرنا۔ عُبْوَة جمع عُبْوَات: پیکیج، پیک (کسی چیز وغیرہ کا)، ڈبہ، بوتل وغیرہ مع ان چیزوں کے جو اس میں ہوں۔ چیزدان۔ عَبَايَة: چوغہ۔

عتّ: عَتَّ ـُ عَتًّا ہُ بالمسالة: سے سوال کرنے میں اصرار کرنا۔ ـــ ہُ بالكلام: کو جھڑکی دینا۔ عَاتَّ ہُ: سے جھگڑا کرنا، کے سامنے بات کو برابر دہرانا۔ تَعَتَّتَ في كلامه: بار بار وہی باتیں دہرانا، العَنَت: درشتیٔ کلام۔

عتب: ۱۔ عَتَبَ ـُ عَتْبًا و عُتْبَانًا و مَعْتَبًا و مَعْتَبَةً و مَعْتِبَةً عليه: کو سرزنش کرنا، پر خفگی کرنا۔ ـ عَتْبًا و عِتَابًا و عِتِّيبَى فُلانًا: کو ملامت کرنا۔ عَاتَبَ عِتَابًا و مُعَاتَبَةً ہُ علی كذا: پر کو ملامت کرنا، کی وجہ سے پر غصہ کرنا، کو ناز سے خطاب کرنا۔ اَعْتَبَ ہُ: سے ناراضگی کا سبب دور کرنا۔ کو راضی کرنا۔ تَعَتَّبَ القومُ: ایک دوسرے پر اظہار ناراضگی کرنا، کہتے ہیں۔ فلانٌ لا يُتَعَتَّبُ بشيءٍ ولا يُتَعَتَّبُ عليه في شيءٍ: یعنی اس پر عیب نہیں لگایا جاتا۔ تَعَاتَبَ الرجُلَان: ایک دوسرے پر عتاب کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ناز سے گفتگو کرنا۔ إسْتَعْتَبَ ہُ: کو رضامند کرنا، سے رضامندی کی درخواست کرنا، کہتے ہیں۔ اسْتَعْتَبتُهُ فأَعتبني: میں نے اس سے رضامندی کی درخواست کی تو اس نے مجھے رضامند کر دیا، یعنی ناراضگی دور کر دی۔ ما بعد الموت مُسْتَعْتَبٌ: موت کے بعد طلب رضا کا موقعہ نہیں۔ العَتُوب: بہت عتاب کرنے والا۔ العُتْبَى: رضا، کہتے ہیں۔ اعطاه العُتْبَى: اس نے اسے رضامند کر لیا۔ الأُعْتُوبَة جمع اعاتيب: سبب عتاب۔ العَتُوب: وہ شخص جس پر عتاب کا اثر نہ ہو۔ المَعْتَبَة و المَعْتِبَة (مص): عتاب غضب۔ المَعْتُوب (مفع): جس پر عتاب کیا جائے۔

۲۔ عَتَبَ ـُ عَتْبًا و عَتَبَانًا و تَعْتَابًا: ایک پاؤں پر کودنا۔ ـــ البعيرُ: اونٹ کا تین ٹانگوں پر چلنا۔ عَتَّبَ الرجُلُ: دیر کرنا۔ العَتْب (مص): لنگڑاپن، کہتے ہیں۔ برجله عَتْبٌ: اس کے ایک پاؤں میں لنگ ہے۔

۳۔ عَتَبَ ـِ عُتْبَانًا من مكان إلى مكان و من قول الى قول: ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونا۔ أَعْتَبَ عنه: سے پھر جانا۔ إعْتَتَبَ: معاملہ میں میانہ روی اختیار کرنا۔ ـ منه و عنه: سے پھر جانا۔ ـ الطريقَ: آسان راہ کو چھوڑ کر دشوار راہ اختیار کرنا۔ العَتَب و العَتَبَة: سخت زمین العُتُبَة: وادی کا موڑ۔ العَتُوب: راہ۔

۴۔ عَتَبَ ـِ عُتْبَانًا البرقُ: بجلی کا بار بار چمکنا۔

۵۔ عَتَّبَ البابَ: دروازہ کی دہلیز بنانا۔ ـ عَتَبَةً: کو دہلیز بنانا۔ تَعَتَّبَ بابَ فلان: کے دروازہ پر قدم رکھنا، کی دہلیز پر پڑا رہنا۔ العَتَبَة جمع عَتَب و عَتَبَات: چوکھٹ، سیڑھی کا قدمچہ، پایہ۔

۶۔ العَتَب: سبابہ اور بیچ کی انگلی یا بیچ والی اور چھنگلیا کے پاس والی انگلی کا درمیانی حصہ، فساد۔ ـــ و العَتَبَة: ناپسندیدہ بات یا معاملہ۔ سختی عَتَبَاتُ الموت: موت کی سختیاں۔

○ عَتَبَ ـِ عَتْبًا و مُعْتَبًا علی: کی عیب جوئی کرنا، کو الزام دینا، کو قصوروار ٹھہرانا، کو ملامت کرنا، کی مذمت کرنا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا، سرزنش کرنا، عَتَبَ بابَه: کی دہلیز پار کرنا۔ عَتَّبَ: ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، تامل ہونا، تامل کرنا، سست ہونا، دیر کرنا، عَاتَبَ ہُ علی: کو کا الزام دینا، کو پر ملامت کرنا، کی پر مذمت کرنا، کو پر جھاڑ جھپاڑ کرنا، کو پر سرزنش کرنا، عَتْب: عیب جوئی، الزام تراشی، الزام، ملامت، زجر و توبیخ، ڈانٹ، ڈانٹ ڈپٹ، جھاڑ جھپاڑ، سرزنش، سرکاری سرزنش۔ عَتَبَة جمع عَتَب و أَعْتَاب: چوکھٹ، دہلیز، سردل۔ العتبة العليا: چوکھٹ، دہلیز، قدمچہ، سیڑھی۔ عِتَاب: سرزنش، جھاڑ جھپاڑ، الزام تراشی، ڈانٹ ڈپٹ، مُعَاتَبَة: جھاڑ جھپاڑ۔ سرزنش، زجر و توبیخ۔

عتد ۱۔ عَتُدَ ـُ عَتَادًا و عَتَادَةً الشيءُ: تیار ہونا۔ عَتَّدَ و أَعْتَدَ الشيءَ: کو تیار کرنا۔ العَتَاد جمع اَعْتُد و عُتُد و اَعْتِدَة: وہ سامان جو کسی مقصد کے لئے تیار کیا جائے۔ سامان جنگ جیسے اسلحہ، جانور، لڑنے کے آلات وغیرہ۔ العَتَد و العَتِد من الخيل: دوڑ کے لئے تیار کیا ہوا گھوڑا مضبوط، صحیح سالم (مذکر و مونث)۔ العُتُدَة جمع عُتَد: سامان، کہا جاتا ہے۔ خذ للامر عُدَّتَهُ: کام کے لئے اس کا سامان لے لو۔ العتيد: حاضر و تیار العتيدة بالعتيد کا مونث سنگھاردان۔

۲۔ تَعَتَّدَ في صنعته: کام کو احتیاط سے کرنا، باریک بینی سے کرنا۔

۳۔ العَتَاد جمع أَعْتُد و عُتُد و أَعْتِدَة: بڑا پیالہ۔ العَتِيد: بھاری جسم کا۔

○ عَتُدَ ـُ عتادا: تیار ہونا۔ أَعْتَدَ ہ: کو تیار کرنا، عَتَاد جمع اَعْتُد و أَعْتِدَة: ساز و سامان، ساز و یراق (جنگی) سامان، مال سامان گولہ بارود (Ammunition) عتاد حربي: سامان جنگ، سامان، گولہ بارود (Ammunition) عتيد: تیار، مستقبل کا، آنے والا، عنقریب ہونے والا، قریبی، آئندہ، محترم، مقدس، باضابطہ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عتر :۱۔ عَتَرَ ـِ تَعْتَارًا العتيرةَ: عتیرہ ذبح کرنا، العِتْر: ہر وہ جانور جو ذبح کیا جائے۔ والعَتِيرة جمع عَتَائِر: وہ بکری جسے عرب ماہ رجب میں اپنے معبودوں کے لئے ذبح کیا کرتے تھے۔

۲۔ عَتَرَ ـِ عَتْرًا و عَتَرَانًا الرمحُ: نیزہ کا ہلنا۔ العِتْر: بکواس۔

۳۔ عَتَرَ ـِ عَتْرًا الشيءُ: مضبوط ہونا۔ رجُلٌ عِتْرٌ: قوی مرد (عام زبان میں)۔ العَتَّار: بہادر، مضبوط طاقت ور گھوڑا۔ المُعْتَر من الرجال: موٹا آدمی۔

۴۔ العِتْر: اصل، اسی سے ضرب المثل ہے۔ عادت الى عِترِها لَمِيسُ: لمیس؟ اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی، یہ ضرب المثل ایسے شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اپنی پرانی عادت کی طرف پھر لوٹ جائے۔ العِتْرة: اولاد، کنبہ، خالص مشک کا ٹکڑا، خشک گوار تھوک، (ن): مرز نجوش (نباتات)۔ المُعْتَر: بخت بدحال

۵۔ العُتْرُب (ن): سماج (درخت)

۶۔ عَتْرَسَ هُ: کو سختی سے کھینچنا، زور سے پکڑنا، تشدد سے لے لینا۔ ــ هُ مالَه: کا مال غصب کرنا۔ العِتْرِس و العَتَرَّس: سختی سے کھینچنے والا، بڑے ڈیل ڈول کا موٹے جوڑوں والا، (ح) شیر (ح) مرغ۔ العِتْرِيس: سخت غضبناک و سرکش۔ مصیبت۔ بلا

۷۔ عَتْرَف له: کے لئے سخت ہونا۔ تَعَتْرَف: نخوت پسند و متکبر ہونا۔ ــ العُتْرُوف و العِتْرِيف جمع عَتَارِيف: خبیث، فاجر، مضبوط اونٹ۔

عتف: عَتَفَ ـِ عَتْفًا الشَعْرَ: بال اکھیڑنا، العِتْفُ من الليل: رات کا ایک حصہ۔

عتق :۱۔ عَتَقَ ـِ عَتْقًا و عِتْقًا و عَتَاقًا و عَتَاقَةً العبدُ: غلام کا آزاد ہونا، صفت۔ عتيق و عاتِق، أَعْتَقَ العبدَ: غلام کو آزاد کرنا العِتق: آزادی۔ العُتْق: آزادی۔ العَاتِق جمع عُتَّق: کنواری۔ العتيق جمع عُتَقَاء و عُتُق: آزاد کردہ غلام۔ أَمَةٌ عَتِيق: آزاد کردہ لونڈی۔

۲۔ عَتَقَ ـُ عُتْقًا و عِتْقًا و عَتُقَ ـُ عَتَاقَةً قدیم ہونا، پرانا ہونا۔ ــ ت الخمرُ: شراب کا پرانا اور عمدہ ہونا۔ صفت عَاتِق و عَتِيق و عُتَاق۔ ــ ت اليمينُ عليه: پر قسم کا واجب ہونا، کہا جاتا ہے: على فلان يمين عتقت: فلاں پر قسم واجب ہوگئی۔ عَتَّقَ الخمرَ: شراب کو پرانی کرنا۔ ــ الثوبَ: کپڑے کو پرانا کرنا۔ العِتق و العُتُق: کہنگی۔ العَاتِق جمع عُتَّق: عمدہ شراب، پرانی شراب، کشادہ مشک۔ ــــ و العاتِقة: پرانی سرخ کمان۔ العُتَاق: پرانی عمدہ شراب۔ العَتِيق جمع عُتَقَاء و عُتُق: کہنہ، قدیم، پرانا۔ البيتُ العتيق: کعبہ شریف۔ العَتِيقَة جمع عَتَائِق: عتيق کا مونث۔ المُعَتَّقة: پرانی عمدہ شراب، ایک قسم کا عطر۔

۳۔ عَتَقَ ـُ عَتْقًا و عِتقًا و عَتُقَ ـُ عَتَاقَةً الشيءُ: درست ہونا۔ أَعْتَقَ مالَه: اپنا مال ٹھیک کرنا۔ العِتق (مص): خالص الاصل ہونا، حسن و جمال، شرافت نجابت۔ العُتُق (ن): درخت جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ العَتِيق جمع عُتَقَاء و عُتُق: کریم، عمدہ، فرس عَتِيق جمع عِتَاق: خوش منظر گھوڑا۔ العتيقة جمع عَتَائِق: عتيق کا مونث۔

۴۔ عَتَقَ ـِ عَتْقًا الفرسُ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں سے دوڑ میں آگے نکل جانا۔ اعْتَقَ الفرسَ: گھوڑے کو تیز دوڑانا۔

۵۔ عَتَّقَ فلانًا بفيه: کو منہ سے کاٹ کھانا۔

۶۔ العُتْق جمع عاتق: کندھے۔ العَاتِق جمع عواتق و عُتُق (ع ا): کاندھا۔ عاتقُ الثريّا (فلك): ایک ستارہ کا نام۔

○ عَتُقَ ـُ عَتَاقَةً و عَتَقَ ـِ عَتْقًا و عِتقًا: پرانا ہونا، بوڑھا ہونا، (شراب کا) پختہ ہونا، شیریں ہونا۔ عَتَقَ (غلام کا) آزاد ہونا۔ أَعْتَقَ هُ: کو (خصوصا غلام کو) آزاد کرنا۔ اِنْعَتَقَ من: سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ عِتْق: مدت (خصوصا شراب کی)۔۔۔۔ آزادی (غلامی کی ضد)، عَتِيق: پرانا، قدیم، پختہ، پرانی لذیذ (شراب)، قدیم روایت کا، مدتوں کا، کہنہ، فرسودہ، دقیانوسی، متروک، غیر مروج، آزاد کردہ غلام، شریف، اونچے خاندان کا۔ عتيق الطراز: پرانی وضع کا، دقیانوسی، عَاتِق جمع عَوَاتِق: کندھا۔ اخذه على عاتقه: اپنے ذمہ لینا، کا کام سنبھالنا۔ القى المسؤولية على عاتقه: پر ذمہ داری ڈالنا، وقع على عاتق فلان: کے خرچ پر ہونا، کے حصہ میں آنا۔

عتك :۱۔ عَتَكَ ـِ عَتْكًا و عُتُوكًا: لڑائی میں حملہ کرنا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا کاٹنے کے لئے حملہ کرنا۔ ــ على الأمر: کسی کام کرنے کا خطرہ مول لینا۔ الى المكان: کسی جگہ کی طرف مڑنا۔

۲۔ عَتَكَ ـِ عَتْكًا و عُتُوكًا البلدَ: شہر پر ظلم کرنا۔ ــ عليه بخير او شرّ: کے ساتھ بھلائی یا برائی سے پیش آنا۔

۳۔ عَتَكَ ـِ عَتْكًا و عُتُوكًا تِ القوسُ: کمان کا پرانی ہونے کی وجہ سے سرخ ہونا، صفت: عَاتِكَة جمع عَوَاتِك: العاتك ... کہنگی کی وجہ سے سرخ۔ ــ من الايام: سخت گرم دن۔

۴۔ عَتَكَ ـِ عَتْكًا و عُتُوكًا اللبنُ: دودھ کا سخت کھٹا ہونا۔

۵۔ العَتْك: زمانہ، کہا جاتا ہے: مَضَى عليه عتكٌ: اس پر ایک زمانہ گزر گیا۔ العَاتِك: کریم۔ ہر خالص چیز اور رنگ، النبيذ العاتِك: صاف شراب۔

○ عتك ـِ عتكًا: حملہ کرنا۔ عَاتِك: صاف، خالص، نتھری ہوئی (شراب بالخصوص)۔

عتل :۱۔ عَتَلَ ـُ عَتْلًا: کو سختی سے کھینچنا، کہا جاتا ہے۔ عَتَلَهُ الى السجن: اس نے اسے زور سے جیل میں دھکیل دیا۔ ــ الشيءَ: چیز کو اٹھانا۔ عَتِلَ ـُ عَتَلًا الى الشر: برائی کی طرف جلدی کرنا صفت عَتِل۔ تَعَتَّلَ: اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اِنْعَتَلَ: کھنچ جانا۔ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، کہا جاتا ہے۔ لا انعتل معك شبرًا: میں اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی نہیں ہٹوں گا۔ العَتَلَة جمع عَتَل: مٹی کا بڑا ڈھیلا۔ کدال۔ بڑی لاٹھی۔ العَتَّال: باربردار، قلی۔ العِتالة: بار برداری کا پیشہ۔ العَتِيل جمع عُتُل و عُتَلاء: مزدور، خادم۔ ار المِعْتَل: کھینچنے یا اٹھانے میں قوی اور مضبوط۔

۲۔ العُتُلّ: بہت کھانے والا، سخت مزاج، ہر سخت چیز۔ داءٌ عَتِيل: سخت بیماری۔

○ عَتَالَة جمع عتل: بیل، کدال۔

عتم :۱۔ عَتَمَ ـِ عَتْمًا عن الامر: کام کرتے کرتے رک جانا۔ عَتَّمَ عن الامر: کام کرتے کرتے رک جانا۔ ــ الطائر: پرندے کا انسان کے سر پر پھڑ پھڑاتے رہنا۔ أَعْتَمَ عن الامر: کام کرتے کرتے رک جانا۔

۲۔ عَتَمَ ـِ عَتْمًا قِرَى الضيف: مہمانی کے کھانے میں دیر کرنا۔ ــ الليلُ: رات کا ایک حصہ گزر جانا۔ ــ ـُ عَتْمًا و تَعَتَّمَت الناقةُ: اونٹنی کا عشاء کے وقت دوہا جانا صفت عَاتِمَة جمع عَاتِمَات و عواتم عَتَمَ الرجُلُ: تاریکی میں چلنا۔ ــــ قِراه: کی مہمانی کے کھانے میں دیر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ماعتم ان وقف بنا: اس نے دیر نہیں کی، حمل عليهم فما عَتَّمَ: اس نے ان پر حملہ کیا تو منہ نہیں پھیرا۔ أَعْتَمَ قِرى الضيف: مہمانی کے کھانے میں دیر کرنا یا دیر ہونا (لازم و متعدی) ــــ حاجتَهُ: کی حاجت کو موخر کرنا۔ ــ ت الحاجةُ: حاجت میں تاخیر ہونا یا حاجت کا موخر ہونا۔ ــــ الرجلُ: تاریکی میں چلنا یا داخل ہونا۔ ــــ ت الناقةُ: اونٹنی کا عشاء کے وقت دوہا جانا۔ ــ الليلُ: رات

martat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کا ایک حصہ گزر جانا۔ اِسْتَعْتَمَ الرجُلَ: کو دیر کرانا۔ ۔۔ النَّعَمَ: بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ کے دوہنے میں دیر کرنا۔ ۔۔ ت الناقةُ: اونٹنی کا عشاء کے وقت دوہا جانا۔ القَمَّةَ: دیر کرنا، رات کی پہلی تہائی، رات کی تاریکی، العاتِم م عاتِمه فا: کہا جاتا ہے جاءَ ناضیفٌ عاتمٌ: ہمارے پاس شام کو دیر سے مہمان آیا۔ النجومُ العاتِمات: وہ ستارے جو غبار کی وجہ سے تاریک ہو جائیں۔ العَتُوم م: وہ اونٹنی جو عشاء کے وقت دودھ دے۔ العَتومَة: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ المِعْتَام: دیر کرنے والا کہا جاتا ہے۔ رجُلٌ مِعْتَام القِرَی: دیر میں مہمانی کا کھانا پیش کرنے والا۔

۳۔ العَتَم و العُتُم (ن): جنگلی زیتون کا درخت۔ واحد عَتَمة و عُتُمَه۔

○ عَتَمَ ۔ عَتما: ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، تامل کرنا۔ عَتَّمَ ہ کو تاریک کرنا، کو دھندلا نا کرنا، پر گھٹا کا چھا جانا، (روشنی) گل کرنا، بلیک آوٹ کرنا۔ عَتَم (بالخصوص حرف نفی کیساتھ): جیسے لایعتم ان، لم یعتم ان، ماعتم ان: زیادہ دیر نہیں ہوئی یا ہوگی کہ، جلد ہی تھوڑی دیر میں، اَعْتَمَ: ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، پس وپیش کرنا، عُتُم اسم جنس واحد عُتُمہ: جنگلی زیتون کا درخت۔ عَتمة تاریکی، اندھیرا، دھندلکا۔ عَتمة رات کی پہلی تہائی۔ عَتامَة: ابہام، غیر واضح ہونا، غیر شفاف ہونا جمع عَتامات تاریکی، اندھیرا، تَعْتِیم تاریک کرنا، دھندلا کرنا، گھٹا کا چھا جانا، بلیک آوٹ، مُعْتِم تاریک۔

عتن: عَتَنَ ۔ عَتْنًا ہُ الی السجن: کو قید خانہ کی جانب زور سے دھکیلنا۔ اَعْتَنَ علی غریمه: قرض دار پر سختی کرنا، تشدد کرنا، کو تکلیف پہنچانا۔ العاتِن و العَتُون جمع عُتُن: قوی، سخت۔ العَتِن من الرجال: سخت حملہ کرنے والا۔

عتہ: ا۔ عَتِهَ ۔ و عُتِهَ عَتَهًا و عُتُهًا و عَتَاهًا و عُتَاهًا و عَتاهَةً و عَتاهِیَةً: کم عقل ہونا، حیران ہونا، الجھاؤ میں پڑنا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، پاگل ہونا، بوکھلا جانا، صفت: مَعْتُوه و مُعَتَّه و عَتَاهِیَة تَعَتَّهَ: جاهل بننا، پاگل بننا۔ ۔۔ عنه: سے تغافل برتنا۔ العَتَاهَة (مص) گمراہی، بے وقوفی۔ و العَتاهِیة: جنون اور دہشت سے پاگل لوگ۔

۲۔ عَتِهَ ۔ عَتَهًا و عُتُهًا و عَتاهًا و عُتاهًا و عَتَاهَةً و عَتاهِیَةً و عُتِهَ فی العلم: علم میں حریص ہونا، ۔۔ فلانٌ فی فلان: کو ایذا دینے کا خواہش مند ہونا، صفت عتیه جمع عُتَهاء۔

○ عُتِهَ عُتْهًا و عَتهًا و عَتَاهَةً: بیوقوف ہونا یا ہوجانا۔ فاتر العقل ہونا یا ہو جانا، کم عقل ہونا یا ہو جانا، پاگل ہونا، دیوانہ ہونا یا ہو جانا۔ عُتْه و عَتَه: حماقت، بیوقوفی، کم عقلی، بے عقلی، فتور عقل، عَتَاهَة بمعنی عُتْه و عَتَه مَعْتُوه جمع مَعاتِیه: احمق، پاگل، جنونی، مختل الحواس، کم عقل، بے عقل، پاگل شخص۔

عتا: عَتَا ۔ عُتُوًّا و عُتِیًّا و عِتِیًّا: تکبر کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ صفت عاتٍ جمع عُتَاة و عُتِیّ، ۔۔ عن الادب: ادب کو قبول نہ کرنا۔ العاتِی: سرکش۔ لیلٌ عاتٍ: بہت اندھیری رات۔ مَلِك عاتٍ: سنگدل، تند خو بادشاہ، ۔ العَتِیّ جمع اَعْتَاء: سرکش۔

○ عتا ۔ عُتُوًّا و عُتِیًّا و عِتِیًّا: گستاخ ہونا، سرکش ہونا، نافرمان ہونا، سخت ہونا، بے وقوف ہونا، سخت ظالم ہونا، مضبوط اور قوی ہونا، جنگلی ہونا، سخت و تند ہونا، (طوفان وغیرہ) کا بہت تیز ہونا۔ عُتُوّ: خود پرستی، دیدہ دلیری، گستاخی، غرور، کبر، نخوت، بدتمیزی، خود پسندی، تکبر، اکڑ، اکڑفوں، ہیکڑی۔ نافرمانی، سرکشی، وحشت، جنگلی ہونا، تندخوئی، سفاکی۔ عُتِیّ: خود پرستی، دیدہ دلیری، تکبر، اکڑنا، اکڑفوں، ہیکڑی، گستاخی، بدتمیزی، جنگلی پن، وحشت، تند خوں، سفاکی۔ بَلَغَ من العمر عتیا: بہت بوڑھا ہو جانا۔ عَتِیّ جمع اَعْتَاء: مغرور، گستاخ، بدتمیز، سرکش، نافرمان، بے قابو، خودسر، بے لگام، منہ زور، جنگلی وحشی، عاتٍ جمع عُتَاة: دیدہ دلیرانہ کا، شوخ چشمی کا، گستاخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، متکبر، مغرور، سخت، متشدد، سخت ظالم، قوی، جنگلی وحشی، تند، تیز، تیز و تند (طوفان)۔

عتی: عَتِیَ ۔ عَتَی: تکبر کرنا، حد سے گزرنا۔ تَعَتَّی: حکم نہ ماننا، نافرمانی کرنا۔

عث: ا۔ عَثَّ ۔ عَثًّا: مُصر ہونا، زور دینا، اصرار کرنا۔

۲۔ عَثَّ ۔ عَثَّاتِ العُثَّةُ الصوفَ: کیڑے کا اون کو چاٹ لینا۔ ۔۔ ت الحیّةُ فلانًا: کو سانپ کا ڈسنا، سانپ کے پھونکنے سے کے بال گرجانا۔ اِعْتَثَّ ہُ عِرقُ سُوء: کو نیکی کرنے سے روک دینا۔ العِثّ (ح): عُثّاث کا مفرد، ایک قسم کے سانپ جو قحط سالی میں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ العَثّاء (ح): سانپ۔ العُثّ جمع عُثّ و عُثَث (ح): اون چاٹنے والا کیڑا۔

۳۔ عَثَّ تَعْثِیثًا و عاثَّ عِثاثًا و مُعاثّةً فی غِنائه: ہر نکالنا۔

۴۔ العَثّة من النساء جمع عِثات: دبلی پتلی عورت، گمنام حقیر عورت، العُثّة: بڑھیا، بیوقوف عورت، بدزبان گمنام عورت۔

عُثّ: (اسم جنس واحد عُثّة) جمع عُثَث: پروانہ، پتنگا، کیڑا، لاروا۔ مَعْثُوث: کرم خوردہ، جسے کیڑا لگا ہوا ہو۔

عثر: ا۔ عَثَرَ ۔ و عَثِرَ ۔ و عَثُرَ ۔ عَثْرًا و عِثِیرًا و عِثارًا الفرسُ: گھوڑے کا پھسلنا اور اوندھا ہونا۔ ۔۔ العِرقُ: رگ کا حرکت کرنا، کہا جاتا ہے: عَثَر بهم الزمانُ: زمانہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ عثر جَدُّہُ: اس کا دادا ہلاک ہو گیا۔ عَثَّرَہُ: کو پھسلانا۔ اَعْثَرَہُ: کو پھسلانا۔ ۔ به عندالامیر: حاکم کے پاس کسی پر عیب لگانا یا اس کو مطعون کرنا۔ تَعَثَّرَ الرجُلُ و الفرسُ و الجَدُّ۔ بمعنی عَثَرَ ۔ لِسانُہُ: زبان کا لڑکھڑانا۔ انسان کا ہکلانا۔ العَثْرة جمع عَثَرات: لغزش، پھسلاہٹ، جہاد، لڑائی، گرنا، العاثُور جمع عَواثِیر و عَواثِر: شیر کا شکار کرنے کے لئے کھودا ہوا گڑھا، کنواں۔ ۔۔۔ و العِثار: پھسلن، بدی، مصیبت، ہلاکت کی جگہ، جب کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو کہا جاتا ہے۔ قدوقع فی عاثور شرٍّ: یعنی وہ مصیبت میں پڑ گیا۔ العَثُور: بہت گرنے والا، بہت پھسلنے والا۔

۲۔ عَثَرَ ۔ عَثْرًا و عُثُورًا علی السرّ وغیرہ: راز وغیرہ سے واقف ہونا۔ اَعْثَرَہُ علی السرّ وغیرہ: کو راز وغیرہ سے مطلع کرنا۔ ۔۔ ہُ علی اصحابه: کو اپنے ساتھیوں کا پتہ بتانا۔ العِثْیَر و العَثْیَر و العَیْثَر: مخفی نشان۔

۳۔ العُثْر (ح): عقاب۔ و العَثَر: جھوٹ۔ العِثْیَر: مٹی، غبار۔

○ عَثَرَ ۔ عَثْرًا و عثیرًا و عِثارًا: ٹھوکر کھانا، ٹھوکر کھا کر گرنا، عَثَرَ به: کو ٹھوکر لگانا، کو گرانا، کو ڈگمگا کر گرانا۔ عَثَرَ ۔ عُثُورًا ب / علی: سے مڈبھیڑ ہونا، سوجھنا، ہاتھ لگنا، کو اتفاق سے پالینا، کو پانا، کا ہاتھ لگنا، کو دریافت، کا انکشاف کرنا، کا پتہ لگانا، عَثَّرَہُ: کو ٹھوکر لگا کر گرانا کو گرانا کو ڈگمگا کر گرانا، اَعْثَرَ بمعنی عَثَّر نیز اَعْثَرہُ علی: کو سے آگاہ کرنا، کو کا پتہ دینا، کو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا۔ تَعَثَّر: ٹھوکر کھا کر گرنا، ہکلانا، رک رک کر کہنا۔ تَعَثَّر باذیال الخیبة: ناکامی سے دوچار ہونا، حجر عَثْرة: رکاوٹ۔ وقف عثرة فی سبیله: کے لئے رکاوٹ ہونا، کا راستہ روکنا۔ عاثور جمع عَواثیر: گڑھا، مشکل۔ مُتَعَثِّر: ٹھوکر کھانے والا، گرنے والا (غیرملکی زبان) ٹوٹی پھوٹی بولنے والا، ٹوٹی پھوٹی (غیرملکی زبان)

عثق: العُثقُول (ز): کیلوں کا گچھا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عثك : ا۔ عَثْكَلَ الهودجَ: ہودہ کو جھالر سے مزین کرنا۔ ـ العذقُ: بہت گچھے دار ہونا۔ العُثْكُول و العثكال جمع عثَاكِيل (د) کھجوروں کا گچھا۔ العُثْكُولَة جمع عثَاكِيل کھجوروں کا گچھا، وہ جھالر جو ہودج میں لٹکائے جائیں۔

۲۔ عَثْكَلَ الرجُلُ: سست رفتار سے دوڑنا۔

عثل: عَثِلَ ـَ عَثَلاً ت يدُه ہاتھ کا ٹوٹنے کے بعد ٹیڑھا جڑنا۔ عَثِلَ ـَ عَثَلاً الشيئُ: بکثرت ہونا، بہت موٹا ہونا صفت: عَثِل و عَثَل العَثُول جمع عُثُل: احمق، بے وقوف۔ العِثْوَل: جس کے سر اور جسم پر بہت بال ہوں۔ ـــ من الرجال اجڈ، اکھڑ۔ العِثْيَل (ح) زربجو۔

عثم ا۔ عَثَمَ ـُ عَثْمًا العظمَ المكسورُ: ٹوٹی ہوئی ہڈی کا ٹیڑھا جڑنا۔ ـــ العظمَ ہڈی کو اس کی صحیح جگہ نہ جوڑنا۔

۲۔ اِعْتَثَمَ به: سے مدد طلب کرنا، نفع اٹھانا۔ ـــ بيده ہاتھ کو جھکانا۔

۳۔ العَيْثُوم (ح) بجو (ح): ہاتھی (مذکر و مونث) العَيْثَمِيّ (ح): گورخر۔ العُثْمان (ح): حُباری کا بچہ ـــ (ح): سانپ۔ (ح): سانپ کا بچہ۔

عثن : ا۔ عَثَنَ ـُ عَثْنًا و عُثَانًا و عُثُونًا في الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔

۲۔ عَثَنَ ـُ عَثْنًا و عُثَانًا و عُثُونًا الثوبَ: کپڑے کو دھونی دینا۔ ـــ ت النارُ: آگ سے دھواں نکلنا، عَثِنَ ـَ عَثَنًا الثوبُ: کپڑے کا خوشبودار ہونا۔ عَثَّنَ الثوبَ: کپڑے کو دھونی دینا۔ ـــ ت النارُ: آگ سے دھواں نکلنا، کہا جاتا ہے۔ عَثَّنَ علی القوم: اس نے لوگوں میں فساد پیدا کر دیا۔ تعَثَّنَ: دھونی دیا جانا۔ العُثَان (مص): جمع عَوَاثِن و العَثَن: دھواں، غبار العَثِن والمَعْثُون: وہ کھانا جو دھواں لگنے سے خراب ہو گیا ہو

۳۔ العِثْنُ: ناظم مالیات، روئی (رنگی ہوئی)۔ العُثْنون ج عَثَانِين: داڑھی۔ ـــ من المطر او الريح: بارش یا ہوا کی ابتداء۔ المُعَثَّن (مفع): بھاری داڑھی والا۔

عثا: عَثَا ـُ عُثُوًّا و عَثَى ـِ وعَثِيَ ـَ عُثِيًّا و عِثِيًّا و عَثَيَانًا: فساد، کفر یا غرور میں مبالغہ کرنا، صفت عاثٍ۔ العَثْوَة جمع عِثِيّ: دراز زلف۔ الأَعْثَى: سیاہی مائل رنگ والا احمق، بہت بالوں والا۔

○ عَثَا ـُ عُثُوًّا و عَثَى ـِ عُثِيًّا و عِثِيًّا: طیش کا رویہ اختیار کرنا، مظاہرہ کرنا، نقصان کرنا، مصیبت یا نقصان کا باعث ہونا۔

عَجَّ ـِ عَجًّا و عَجِيجًا چلانا۔ آواز بلند کرنا۔ الناقةَ: اونٹنی کو عاج عاج کہہ کر ڈانٹنا۔ العَجَاج (واحد عَجَاجَة) بے وقوف۔ ادنی لوگ۔ العَجَاجة بمعنی عجاج نیز بہت سارے بڑے اونٹ کہا جاتا ہے: لَبَّدَ عَجَاجَتَهُ: اس نے وہ کام جس میں مشغول تھا کرنا بند کر دیا۔ لَفَّ عَجاجتهُ عليهم: ان پر حملہ کرنا۔ العَجَّاج: چیخنے والا۔

۲۔ عَجَّ ـِ عَجًّا و عَجِيجًا ـ ت الريحُ: ہوا کا تند تیز ہونا، اور غبار اڑا دینا۔ کہا جاتا ہے له رائحة تعجّ في المسجد: اس کی بو مسجد میں بھڑک اٹھتی ہے۔ ـ عَجَّجَ الغبارَ: گرد و غبار اڑانا۔ ـــ البيت من الدخان: گھر کو دھوئیں سے بھر دینا۔ تَعَجَّجَ: دھوئیں سے بھر جانا۔ أَعَجَّ ت الريحُ: ہوا کا تیز و تند ہونا اور گرد و غبار اڑانا۔ العَجَاج (واحد عَجَاجَة): گرد و غبار، دھواں۔ العَجَّاج: غبار اڑانے والا۔ یوم عَجَّاجٌ: گرد و غبار والا دن ريحٌ مَعَاجِيج: گرد و غبار اڑانے والی ہوا۔

۳۔ العُجَّة (ط): ایک قسم کا کھانا جو انڈا آٹا گھی یا تیل ملا کر پکایا جاتا ہے۔

۴۔ عَجْعَجَ عَجْعَجَةً: بہت چیخنا، چلانا۔ العَجْعَاج: بہت چیخنے والا۔ العَجْعَجَة (مص) جمع عَجَاعِج: چیخ۔

۵۔ العَجْعَاج من الخيل: اصیل گھوڑا، کہنہ سال گھوڑا۔

○ عَجَّ ـِ عَجًّا و عجيجًا: چیخنا، چلانا، چلا کر کہنا، سخت تیز ہونا، نوروں کا ہونا، گرجنا، دھاڑنا، ـــ الی: کو مدد کیلئے پکارنا۔ ـــ ب: گرج کر یا کڑک کر کچھ کہنا، کی گونج پیدا کرنا، سے بھرا ہونا، میں بہت پڑا ہونا، سے بھرپور ہونا۔ عَجَّجَ الغبار: گرد و غبار اڑانا۔ عَجّ: چلانا، چیخنا، چلا کر پکارنا، شور و غوغا، دہائی، گرج، دھاڑ۔ عُجَّة: آملیٹ (Omelet) عجيج: چیخنا، چلانا، چلا کر کہنا، گرج، دھاڑ عَجَاج: چکر کھاتا گرد و غبار، دھواں۔ عَجَاجَة جمع عَجَاجات: گرد و غبار کا بادل، دھوئیں کی بڑی لہر۔ عَجَّاج: شور مچانے والا، چیخنے والا، گرجدار، کڑک دار، اکھڑ، تند، ادھم مچانے والا، گلا پھاڑ کر کہنے والا، پرشور انداز سے اصرار کرنے والا، بہت زوردار، سخت تیز (سمندر بالخصوص)

عجب: ا۔ عَجِبَ ـَ عَجَبًا مَن الامر وله: پر تعجب کرنا۔ ـــ اِلیه: کو پسند کرنا۔ عَجَّبَ و أَعْجَبَ هُ: کو تعجب میں ڈالنا۔ أَعْجَبَ بالشي: کسی بات کا کسی کو اچھا لگنا اور اس پر تعجب کرنا۔ تَعَجَّبَ منهُ: پر تعجب کرنا، کہا جاتا ہے۔ تَعَجَّبَني فلانٌ: فلاں نے مجھے فریفتہ کر دیا اور فتنے میں ڈال دیا۔ اِسْتَعْجَبَ منه: تعجب کر[illegible]

العَجَب جمع أَعْجَاب: حیرت، حیرانی، تعجب، اچنبھا، سخت تعجب، ـــ من الله: رضا۔ العُجَاب: تعجب کی حد سے بڑھ جانا، کہا جاتا ہے۔ عَجَبٌ عُجَابٌ وعَجِيبٌ: سخت تعجب۔ اچنبھا۔ والعُجَّاب والعجيب: حیرت انگیز، غیر معمولی۔ العَجْبَاء: عورت جس کے حسن یا بدصورتی پر تعجب کیا جاتا ہو۔ حیرت انگیز طور پر حسین عورت، حیرت انگیز طور پر بدصورت عورت۔ العَجِيبَة جمع عَجَائب و الأُعْجُوبَة جمع أعاجيب: جس چیز پر تعجب کیا جائے۔ اعجوبه: کرامات، حیرت انگیز (چیز وغیرہ) رجُلٌ تِعْجَابَةٌ: عجیب باتوں والا۔ التَعَاجِيب عجائبات (اس کا واحد نہیں ہوتا) التَعَجُّب: حیرت، حیرانی، تعجب، اچنبھا، جن باتوں کے اسباب مخفی ہوں ان کے بارے میں نفسیاتی تاثر۔

۲۔ أُعْجِبَ بنفسه: غرور و تکبر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ مااَعْجَبَهُ برأيه: وہ اپنی رائے پر کس قدر مغرور ہے۔ (فعل تعجب مجہول سے بنائے جانے کی وجہ سے شاذ ہے) العُجْب: فخر، تکبر، خود بینی۔

۳۔ العَجْب جمع عُجُوب: ہر چیز کا پچھلا حصہ، دم کی جڑ۔ العَجْبَاء من النياق: موٹی اونٹنی۔

○ عَجِبَ من / ل: پر تعجب کرنا۔ سے حیرت زدہ ہونا عَجَّبَ هُ: کو حیران کرنا، ششدر کرنا، اچنبھے میں ڈالنا، متحیر کرنا، کو بھونچکا کر دینا۔ أَعْجَبَ بمعنی عَجَّبَ نیز ـ ہ: کو پسند آنا، کو بہت اچھا لگنا، کو خوش کرنا، کو محظوظ کرنا۔ أُعْجِبَ به: کو سراہنا، پسند کرنا، بنظر استحسان دیکھنا، کے بارے میں اونچی رائے رکھنا، پر فخر کرنا، کا گھمنڈ کرنا، پر اترانا۔ أُعْجِبَ بنفسه: مغرور ہونا، متکبر ہونا، خود پسند ہونا، خود بین خود نما، خود پسند یا گھمنڈی ہونا، عُجْب ب: میں، کا غرور، تکبر، نخوت، پرنخچے، فخر و ناز، فخر و مباہات، جھوٹا ناز، بیجا غرور، گمان، تکبر، خود پسندی، عَجَب: حیرت، حیرانی، استعجاب: جمع أَعْجَاب: حیرت، حیرانی، تعجب، اعجوبہ، حیرت انگیز شے یا بات۔ عَجَبًا: کتنا عجیب، انوکھا، نرالا، عجیب سا، حیران کن، حیرت انگیز، غیر معمولی یا لَلْعَجَب: اوہ، کتنا حیرت انگیز، لاعَجَب: کوئی حیرت کی بات نہیں۔ امرٌ عَجَب: حیرت انگیز، عجیب مزے کی بات عَجَبٌ عُجَاب: انتہائی حیرت انگیز واقعہ حیرتوں کی حیرت، عُجَاب: حیرت انگیز، معجزنما، عجیب عَجِيب: حیرت انگیز، معجزنما، قابل تعریف، قابل ستائش، بہت عمدہ، بہت ہی اچھا، غیر معمولی، عجیب، انوکھا، نرالا، عجیب سا۔ عَجِيبَة: حیرت انگیز

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چیز، ان سنی چیز، ان دیکھی چیز، حیرت انگیز بات یا شے۔ معجزہ: حیرت انگیز واقعہ۔ جمع عَجائب: غیر معمولی اشیاء، نوادر، عجیب سی باتیں۔ مِن عجائب الأمران: اس معاملہ کے بارے میں غیر معمولی بات یہ ہے کہ أعجَب: زیادہ حیرت انگیز، زیادہ غیر معمولی، أعجُوبة: حیرت انگیز چیز، ان سنی، ان دیکھی چیز، معجزہ، حیرت، حیرانی، استعجاب: حیرت، حیرانی، اچنبھا، سخت تعجب مُعجِب: باعث تحسین قابل تعریف، قابل ستائش مُعجَب ب: کو سراہنے والا، پسند کرنے والا، کو بنظر استحسان دیکھنے والا، پر فخر کرنے والا، کا گھمنڈ کرنے والا۔ مُعجَبٌ بنفسه: مغرور، خود بین، خود پسند، مُتَعَجِّب: متحیر، حیران، ششدر۔

عجد: العَجَد و العُجد: انگور کا دانہ خشک انگور کا دانہ۔

عجر: ۱- عَجَرَ ـِ عَجْرًا عُنُقَهُ: کی گردن موڑ دینا۔ تَعَجَّرَ بطنُهُ: موٹا ہونے کی وجہ سے پیٹ کا سلوٹ دار ہونا۔ إعتَجَرَ: عمامہ لپیٹنا۔ ـــ ت المرأة: اوڑھنی ڈالنا۔ الأعجَر م عَجراء جمع عُجر: کبڑا۔ المِعجَر: عورت کا سر پر باندھنے کا کپڑا، سر پر لپیٹے بغیر عمامہ۔ المُعَجَّر: بندھا ہوا عمامہ۔

۲- عَجَرَ ـِ عَجرًا هُ بالعصا: کو لاٹھی مار کر بدھی ڈال دینا۔ عَجِرَ ـَ عَجَرًا: بڑے پیٹ کا ہونا صفت أعجَر۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کا سخت ہونا۔ العَجَر (مص): ابھار، حجم۔ العُجرة جمع عُجَر: دھاگے، لاٹھی اور جسم کی رگوں وغیرہ کی گرہ، کہا جاتا ہے۔ ذکر عُجَرَهُ و بُجَرَهُ: اس نے اس کے سب عیب یا غم بیان کر دیئے۔ یعنی سب ظاہر و پوشیدہ باتیں کہہ دیں۔ العَجُور (ن): ایک قسم کا خربوزہ۔ الأعجَر م عَجراء: جمع عُجر: بڑے جسم والا، بہت بھرا ہوا۔ العَجراء: گرہوں والی لاٹھی۔

۳- عَجَرَ ـِ عَجرًا عليه بالسيف: پر تلوار سے حملہ کرنا۔ ـــ القاضي عليه: کو قاضی کا تصرف سے روک دینا۔

۴- عَجَرَ ـِ عَجرًا الشيءَ: چیز کو پھاڑ دینا۔

۵- عَجَرَ ـِ عَجرًا و عَجَرانًا و عاجَرَ: خوف وغیرہ کی وجہ سے جلدی جلدی ... رجانا۔

۶- الأعجَر من الثمار: کچا پھل (عام زبان میں) العَجّار: گوندھے ہوئے آٹے کا پیڑہ کھانے والا۔ العَجاجير: گندھے ہوئے آٹے کے پیڑے۔ العُجرُور (عَجاجير کا واحد) جس کا معنی ہے ہوا کی ... سے ریت پر پڑنے والی دھاریاں۔

ـــ عَجرَدَهُ: برہنہ کرنا۔ تَعَجرَدَ: برہنہ ہونا صفت مُعَجرِد

۸- تَعَجرَفَ: تکبر کرنا۔ سرکشی کرنا۔ العَجرَفة: تکبر، کلام میں اکھڑ پن، کہا جاتا ہے۔ في الجمل عَجرَفة و عَجرَفِيَّةٌ في المشي: اونٹ چلنے میں بے پروا ہے۔ عَجارِفُ و عَجاريفُ الدهر: زمانہ کے حوادث۔ ـــ المطر: بارش کی شدت۔

۹- عَجرَمَ الرجلُ: تیز چلنا، جلدی کرنا، العَجرَم و العُجرُم و العُجارم: سخت آدمی۔

۱۰- العَجرَم (ن): ایک پودا، جس میں کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، پتے بیضوی شکل کے اور چھوٹے ہوتے ہیں پھل سیاہ رنگ کا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ پودا بحر ابیض متوسط کے کئی ممالک میں اگتا ہے۔

○عَجَر: ابھار، ابھرا ہوا حصہ۔ عَجِر: ہرا، کچا۔ عُجرَة جمع عُجَر: گرہ، گانٹھ، گومڑی، کوہان، کب، کوبڑ، ابھار۔ عُجَرُهُ و بُجَرُهُ: کی ظاہر و پوشیدہ خامیاں، اس کے تمام گناہ و عیوب۔ تَعَجرَف: دیدہ دلیر، خود پسند، مغرور، یا متکبر ہونا۔ عَجرَفة: دیدہ دلیری، خود پسندی، غرور، تکبر۔

عجز: ۱- عَجَزَ ـُ عُجُوزًات المرأةُ: عورت کا بوڑھی ہونا۔ ـــ و ـــ و عَجِزَ ـَ و عَجزًا و عُجُوزًا و عَجَزانًا مَعجَزًا و مَعجِزًا و مَعجَزَةً و مَعجِزَةً: باعزم، مستقل مزاج، پکا وغیرہ نہ ہونا۔ عن کذا: پر قادر نہ ہونا، کی طاقت نہ رکھنا، سے عاجز ہونا، کہا جاتا ہے، عجز فلانٌ عن العمل: فلاں شخص بوڑھا ہو گیا اور کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صفت عاجز جمع عَواجز۔ عَجُزَ ـُ عُجُوزات المرأةُ: عورت کا بوڑھی ہو جانا۔ عَجَّزَهُ: کو عاجز کر دینا، کو عجز کی طرف منسوب کرنا کو روک دینا۔ ـــ تِ المرأةُ: عورت کا بوڑھا ہو جانا۔ عاجَزَ مُعاجَزَةً: سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ـــ الرجلُ: عاجز ہو جانا۔ أعجَزَهُ: کو عاجز کرنا یا عاجز پانا۔ ـــ هُ الشيءُ: چیز کے قبضہ سے نکل جانا اور اسے حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھنا۔ تَعَجَّزَ: عجز کا دعوی کرنا۔ إستَعجَزَهُ: کو عاجز پانا۔ العاجز جمع عَواجز (فا)۔ امرأةٌ عاجز: عاجز عورت۔ ثوبٌ عاجزٌ: تنگ جامہ۔ رجلٌ عَجُزٌ و عَجِزٌ: مرد عاجز۔ العَجُوزُ جمع عُجُز و عَجائِز: بڑھیا، شراب۔ رجلٌ عَجُوزٌ: عاجز مرد۔ المُعجِزة جمع مُعجِزات: وہ خارق عادت بات جسے انسان نہ کر سکے۔ المِعجاز: ہمیشہ عاجز رہنے والا۔

۲- أعجَزَ في الكلام: مقصود کو بلیغ ترین اسلوب سے ادا کرنا۔

۳- تَعَجَّزَ البعيرُ: اونٹ کے چوتڑ پر سوار ہونا۔ العَجُز و العُجزُ و العِجزُ و العُجُز و العَجز: جمع أعجاز: چیز یا جسم کا پچھلا حصہ، سرین کہا جاتا ہے۔ رکب أعجازَ الإبل: وہ ذلت اور مصیبت میں مبتلا ہوا۔ عَجُزُ بيت الشعر: مصرعہ ثانی۔ أعجازُ النخل: کھجور کے درخت کی جڑیں۔ العُجزَة و العِجزَة: کہتے ہیں۔ هو عُجزَةُ أبيه و عِجزَتُهُ: وہ اپنے باپ کا آخری لڑکا ہے۔ (سب کے ساتھ مفرد لفظ سے آتا ہے) کہتے ہیں۔ وُلِدَ لِعِجزَةٍ: وہ والدین کے بوڑھا ہونے پر پیدا ہوا۔ العِجاز و العِجازَة: وہ پٹھا جس سے تلوار کے دستہ کو باندھتے ہیں۔ الأعجَز: بڑے سرین والا۔ کیسٌ أعجَز: بھری ہوئی تھیلی۔ العَجزاء اعجز کا مونث۔ ايّام العَجُوز: جاڑے کے آخری سات دن، سخت سردی والے جس کے چار دن آخری فروری میں اور تین دن مارچ میں ہوتے ہیں عوام ان کو مُستَقرَضات کہتے ہیں ان دنوں کے نام یہ ہیں۔ **صِنّ، صِنَّبر، وَبْر، آمِر، مُؤتَمِر، مُعَلِّل مُطفِي الجَمر یا مکفي الظعن۔**

۴- العَجز جمع أعجاز: تلوار۔ نَبات العَجز: تیر۔ العَجزاء: ریت کا اونچا ٹیلہ۔ العَجُوز: مصیبت، کشتی، راستہ، ہانڈی، کمان، آگ، موت، (ن) کھجور کا درخت۔ (ح): اونٹنی۔ المُعجَاز: راستہ۔ المَعجُوز: جس سے سوال میں اصرار کیا جائے۔

○ماعجز عن أن: وہ میں ناکام نہیں ہوا۔ أعجَزَهُ عن الدبّ و المشي: نے کی ہر نقل و حرکت کو مفلوج کر دیا۔ أعجَزَهُ عن الفهم: کے لئے فہم و ادراک ناممکن بنا دیا۔ إستَعجَزَهُ عن: کو سے عاجز سمجھا۔ عَجزٌ عن: (کیلئے، کے کرنے میں) کمزوری، (سے) معذوری، نالائقی، ناکامی، بے بسی، عُجُوز: بڑھاپا۔ عَجُوز جمع عَجائز و عُجُز: بڑھیا، بوڑھا، عمر رسیدہ۔ عَجِيزة: چوتڑ، سرین۔ إعجاز: انفرادیت، بے مثلی، قرآن کی حیرت انگیز قدرت، عاجز: کمزور، لاغر، بے بس، نامرد، نالائق، ـــ عن: کے ناقابل۔ جمع عَجَزة: جسمانی طور پر کمزور، معذور، زار و نزار۔ (لوگ)

عجس: ۱- عَجَسَ ـِ عَجسًا هُ عن حاجته: کو اس کی حاجت سے باز رکھنا۔ تَعَجَّسَ: پیچھے ہٹنا۔ ـــ بالقوم: کو دیر کرانا۔ ـــ هُ: کی رائے کو کمزور سمجھنا۔ ـــ هُ عن حاجته: کو اس کی ضرورت سے روکنا۔

۲- عَجَسَ ـِ عَجسًا على الشيء: کو مضبوطی سے پکڑنا، پر گرفت مضبوط کرنا، العُجس و العَجس

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والعجس: کمان کا قبضہ۔ العُجْسَة: رات کی تاریکی، رات کی ایک گھڑی۔

۳۔ تَعَجَّسَ الأمرَ: کے درپے ہونا، کا پیچھا کرنا، العَجُوس: بوجھل بادل، مسلسل بارش۔

عجف: ۱۔ عَجَفَ ـِ عُجُوفًا: کھانا چھوڑ دینا۔ ـــ ـِ عَجْفًا و عُجُوفًا نفسَهُ عن الطعام: بھوک کے باوجود دوسروں کو کھلانے کے خاطر بھوکا رہنا۔ ـــ ـُ عَجْفًا و عُجُوفًا عن فلان: سے دور رہنا، سے کنارہ کش ہونا، سے نفرت کرنا۔ عَجَّفَ نفسَهُ عن الطعام: کھانا چھوڑ دینا۔ ـــ الرجلُ: سیر ہوکر نہ کھانا۔

۲۔ عَجَفَ ـِ عَجْفًا و عُجُوفًا و عَجَّفَ نفسَهُ على المريض: صبر کے ساتھ مریض کی تیمارداری کرنا۔ ـــ نفسَهُ على فلان: کی گمراہی کو برداشت کرنا۔ أَعْجَفَ بنفسه على المريض: صبر کے ساتھ مریض کی تیمارداری کرنا۔

۳۔ عَجَفَ ـُ عَجْفًا و عُجُوفًا الدابَّةَ: جانور کو لاغر کرنا۔ عَجِفَ ـَ و عَجُفَ ـُ عَجَفًا: کمزور ہونا، دبلا ہونا، صفت عَجِف و أَعْجَف مونث عَجْفَاء و عَجْفَاء جمع عِجَاف۔ ـــ ت البلادُ: ملک میں بارش نہ ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ نزلوا في بلادٍ عِجَافٍ: وہ غیر بارش شدہ شہروں میں آئے۔ أَعْجَفَ القومُ: دبلے جانوروں کا مالک ہونا۔ الدابَّةَ: جانور کو لاغر کرنا۔ العِجَاف: عجفاء کی جمع (جو قیاس کے خلاف ہے) العَجِيف جمع عَجْفَى: لاغر، کمزور، دبلا۔ التَعَجُّف: تنگ حالت۔

۴۔ العِجَاف: اندرائن، زمانہ۔

○ عَجْعَجَ: چیخنا، چلانا، ڈکارنا، گرجنا، دھاڑنا۔ عَجْعَجَة: گرج، دوھاڑ، چیخ وپکار، شوروغوغا۔

أَعْجَفُ م عَجْفَاء جمع عِجَاف: پتلا دبلا، چھریرا، پتلا اور لمبا، نازک، نازک اندام، لاغر، گھلا ہوا۔

عجل: ۱۔ عَجِلَ ـَ عَجَلًا و عَجَلَةً: جلدی کرنا، کہا جاتا ہے۔ عَجِلَ به اليه: کو کوئی چیز تیز رفتاری سے بھیجنا۔ ـ الامرَ: کو سست رفتار پاکر کوئی اور کام کرنا۔ عَجَّلَ: جلدی کرنا۔ ـــ ہُ: پر سبقت کرنا۔ کو برانگیختہ کرنا۔ ـــ له من الثمن كذا: کو کچھ رقم پیش کرنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت وجلدی میں پکانا۔ عَاجَلَ مُعَاجَلَةً ہُ بذنبه: کا جلدی مواخذہ کرنا اور سزا دینا۔ ـــ ہُ بضربه: پر مارنے میں سبقت کرنا۔ أَعْجَلَ ہُ: پر سبقت کرنا، کو برانگیختہ کرنا۔ ـــ الشيَّ: کو جلدی میں کھانا۔ ـــ تِ الناقةُ: اونٹنی کا قبل از وقت بچا جننا۔ تَعَجَّلَ في الامرِ: میں جلدی کرنا۔ ـــ الامرَ: کو جلدی میں کرنا۔ اِسْتَعْجَلَ ہُ: کو جلدی کرنے پراکسانا اوراس کا حکم دینا، پر سبقت کرکے آگے بڑھنا۔ العَجَلَة جمع عَجَل و عِجَال: رہٹ۔ العُجْل و العُجْلَة و العُجَالَة: جو کام جلدی کیا جائے۔ جو کھانا موجود ہو، ماحضر، مہمان کے لئے جو کچھ جلدی تیار کیا جائے۔ العَجَلَة جمع عَجَل و عِجَال و أعْجَال: جلدی، ہلکا پن، سامان لادنے کی گاڑی۔ رہٹ۔ العَاجِل و العَجِل والعَجُل: جلدباز۔ العَاجِلَة: عاجل کا مونث۔ دنیا۔ العَجْلان م عَجْلَى جمع عَجَالَى و عُجَالَى وعِجَال والعجيل جمع عِجال: جلدی کرنے والا۔ العَجُول: موت، غمزدہ عورت، بچہ کو کھودینے والی عورت۔ ـــ جمع عُجُل: جلدی کرنے والا۔ ـــ والعَجَّال: بہت جلدی کرنے والا۔ العُجَيْلَة والعُجَيْلَى و العُجَّيْلَى: تیز چال، کہتے ہیں۔ سار العُجَيْلَى: وہ تیز چال چلا۔ اس کی ضد هوینا ہے۔ المِعْجَال جمع مَعَاجِيل: برانگیختہ کرنیوالا۔ سبقت لیجانے والا۔ امرأةٌ مِعْجَال: قبل از وقت بچہ جننے والی عورت۔ مَعَاجِيلُ الطُرق: مختصر راستے۔ المِعْجَل: رفتار ناپنے کا آلہ۔ طريقٌ مُسْتَعْجَلَةٌ: مختصر قریبی راستہ کہتے ہیں۔ اخذ مُستَعْجَلَةً من الطريق: اس نے مختصر راستہ اختیار کیا۔ هذه مُسْتَعْجَلاتُ الطريق: یہ مختصر راستے ہیں۔ یہ قریبی راستے ہیں۔

۲۔ العِجْل جمع عُجُول و عِجْلَة و عِجَال (ح): بچھڑا۔ العِجْلَة جمع عِجَل و عِجَال (ح) بچھڑی، بچھیا۔ العَجَلَة جمع عَجَل و عِجَال و أَعْجَال: گارا، کیچڑ۔ العِجَّوْل جمع عَجَاجِيل: بچھڑا۔

○ عَجِلَ ـَ عَجَلًا و عَجَلَةً الى: پر تیزی سے پہنچنا۔ عَجِلَ و عَجَّلَ: جلدی کرنا، جلدی میں ہونا۔ عَجَّلَ ب: کو جلدی سے کرنا۔ ـــ ب ل: کے پاس کوئی چیز جلدی سے لانا، لیجانا۔ عَجَّل ہ: کو جلدی سے بھیجنا، کو دھکیلنا، پرزور دینا، کو مجبور کرنا، اکسانا۔ ـــ ھ: کو جلدی کرنا، تیز تیز کرنا، تیز کرنا، تیز چلانا۔ عَجَّلَ: پیشگی ادائیگی کرنا۔ ـ ل ھ: کی کیلئے نقد ادائیگی کرنا۔ عَاجَلَ ھ / ہ: کو جالینے کے لئے جلدی کرنا۔ کے پیچھے دوڑنا، کو جالینا۔ ـــ ہ: کو موت کا آلینا۔ ـــ ھ/ہ: پر تیزی سے آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، اچانک حملہ کرنا۔ ـــ ہ ب: کسی کام میں سے قبل پیش بندی کرنا۔ أَعْجَلَ ہ: کو جلدی کرانا، بھیجنا، پرزور دینا، کو مجبور کرنا۔ اعجله الوقتُ عن: اس کے لئے کرنے کا وقت بہت تھوڑا تھا۔

تَعَجَّلَ: جلدی کرنا۔ ـــ ہ الی: کو پراکسانا، برانگیختہ کرنا۔ ـــ ہ/ھ: کی پیش بندی کرنا۔ ـــ ھ: سے آگے ہونا (ھ وقت سے) پہلے ہونا۔ ـــ (ھ رقم) فوراً وصول کرنا۔ بلاتاخیر وصول کرنا۔ ـــ: نقد وصول کرنا۔ تَعَجَّلَهُ الجوابَ: سے فوری جواب طلب کرنا۔ اِسْتَعْجَلَ: جلدی کرنا۔ ـــ ھ: کو جلدی کرنے کا خواہشمند ہونا۔ ـــ ہ: کو جلدی کرانا، بھیجنا، پرزور دینا کو مجبور کرنا۔ ـــ ھ: کو جلدی کرنا، تیز تر کرنا۔ عِجلُ البحر: سیل، دریائی بچھڑا۔ عَجَل: جلدی، پھرتی، على عَجَلٍ: جلدی سے، بہ سرعت، عَجَلَة جمع عَجَلات: پہیہ، بائیسکل عَجَلَةٌ سيارة: موٹر سائیکل عَجَلَةُ القياد: سٹیرنگ وہیل Steering wheel عَجَلَةٌ نارِيَّةٌ: موٹر سائیکل۔ عُجَالَة: مختصر بیان، جلدی میں مرتب کی ہوئی رپورٹ، على وجه الاستعجال: تیز رفتاری سے، تیزی سے استعجالی: جلد کیا ہوا، عارضی وقتی، استعجال: جلدبازی، جلدی۔ عاجل: دنیوی، دنیاوی، زمانی، فوری عاجلاً: جلد، فوراً، ابھی حكمٌ عاجلٌ: سرسری فیصلہ، حکم، عاجلاً او آجلاً: کبھی نہ کبھی، دیرسویر، جلد یابدیر۔ في العاجل والآجل: اب اور آئندہ في عاجله او اجله: کبھی نہ کبھی دیر سویر جلد یا بدیر۔ في القريب العاجل: فوری مستقبل میں، مستقبل قریب میں۔ عاجلة: تیز روٹرین، ایکسپریس گاڑی۔ العاجلة: اس دنیا کی زندگی۔ مُعَجَّل: فوری، اہم، ضروری، قبل از وقت۔ مُعَجَّل الرسم: جس کا محصول ڈاک پیشگی ادا کردیا گیا ہو۔ Prepaid. Postpaid حکم بالنفاذ المعجل: سرسری حکم، فیصلہ، جو سرسری کارروائی کے بعد صادر کیا گیا ہو۔ دفع مُعَجَّلًا: پیشگی ادائیگی کرنا۔ قاضي الامور المستعجلة: سرسری فیصلہ کا مجسٹریٹ Magistrat of summary justice

عجم: ۱۔ عَجَمَ ـُ عَجْمًا و عُجُومًا العودَ: دانت سے کاٹ کر لکڑی کی سختی یا نرمی معلوم کرنا۔ السيفَ: تجربہ کیلئے تلوار کو حرکت دینا۔ ـ الشيَ: کا امتحان کرنا، آزمائش کرنا، صفت عَاجِم جمع عُجَّمٌ ـــ تْهُ الأمورُ: کو عادی بنانا۔ کہتے ہیں۔ ما عَجَمَتْهُ عيني منذ كذا: کو میں نے فلاں وقت سے نہیں دیکھا۔ رأيت فلانا فجعلت عيني تعجمه كانها تعرفه: میں نے فلاں کو دیکھا تو میری آنکھیں اس کا جائزہ لینے لگیں جیسے وہ اسے جانتی ہوں۔ عَجَمَ عودَ فلان: اس نے فلاں کی آزمائش کی اور

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اس کے حال کی تحقیقات کی۔ عَاجَمَ ہُ کا تجربہ کرنا، کہتے ہیں۔ عاجمتُ الامور و عاجتمنی میں نے معاملات کی آزمائش کی اور معاملات نے میری۔ العَجْمَۃ جمع عَجَمَات اسم مرۃ۔ العواجم (جس کا مفرد عَاجِمَۃ ہے): دانت رجُلٌ صُلْبُ المَعْجَم جو شخص آزمائش کے وقت سخت ہو۔

۲۔ عَجَمَ ـُـ عَجْمًا الکتابَ او الحرفَ: کتاب یا حرف پر نقطے لگانا۔ عَجَّمَ و أَعْجَمَ الکتابَ: کتاب پر نقطے اور حرکات لگا کر یا تفسیر کر کے ابہام دور کرنا (ضد) کتاب پر اعتراب نہ لگانا۔ المُعْجَم (مصدر میمی): لغت کی کتاب، قاموس، حروفُ المُعْجَم: حروف تہجی۔

۳۔ عَجُمَ ـُـ عَجْمًا الکتابَ: حروف پر اچھی طرح وقف نہ کرنا۔ عَجُمَ ـُـ عُجْمَۃً: زبان میں لکنت ہونا صفت اَعْجَم م عَجْمَاء جمع عُجْم عَجَّم الکتابَ: کتاب پر اعراب نہ لگانا (ضد) أَعْجَم الکتابَ: کتاب پر اعراب نہ لگانا (ضد) ــــ الکَلامَ: عجمی زبان میں بات کرنا۔ البابَ دروازہ پر قفل لگانا۔ تَعَاجَمَ الرجُلُ: عُجمی بنا، عجمی ظاہر کرنا۔ ــــ القومُ: کنایہ کرنا، توریہ کرنا۔ اِنْعَجَمَ علیہ الکلامُ: پر گفتگو یا بات یا کلام دشوار ہونا یا مبہم ہونا۔ اِسْتَعْجَمَ: عجز سے ساکت ہونا۔ ــــ القراءَۃَ: پڑھنے پر قادر نہ ہونا۔ ــــ علیہ الکلامُ: پر کلام کا دشوار ہونا، مبہم ہونا۔ العُجْم غیر عرب۔ العَجَم: غیر عرب۔ فارس۔ فارسی لوگ۔ الأَعْجَام: غیر عرب۔ العُجْمَۃ و العِجْمَہ ابہام، کھول کر بیان نہ کرنا۔ الأَعْجَم جمع اَعْجَمُون و اَعَاجِم: غیر عربی، اگرچہ فصیح عربی بولتا ہو، جو صاف کھول کر بیان نہ کرے، اگرچہ عربی ہو، گونگا، العَجْمَاء جمع عَجْمَاوَات اعجم کا مونث، چوپایہ، حدیث میں ہے جرحُ العجماء جُبار یعنی چوپائے کو زخمی کرنا، رائیگاں جاتا ہے کیونکہ اسے کئے کی سزا نہیں دی جاتی۔ الأَعْجَمِیّ و العَجَمِیّ: غیر عرب جو عجم کی جانب منسوب ہو۔ بابٌ مُعْجَمٌ: مقفل دروازہ۔

۴۔ العَجْم و العُجْم دم کی جڑ۔ العَجَم و العُجَام (واحد عَجَمۃ و عُجَامَۃ) چھوارے کی گٹھلی، گٹھلی، کہتے ہیں۔ لیس لھذا الرُّمّان عَجَم اس انار کی گٹھلی نہیں ہے۔ العَجْمَۃ جمع عَجَمَاوات: سخت چٹان۔ العُجْمَۃ و العِجْمَۃ ریت کا ڈھیر۔ العَجَمۃ خرما کا درخت۔ العَجْمَاء ریت کا ٹیلہ جس میں درخت نہ ہو العجّام (ح) بڑی چمگادڑ۔

○ انعجم علی: (زبان کا کسی پر) غیر واضح ہونا، نا قابل فہم ہونا۔ استعجم: غیر عربی ہو جانا۔ عَجَم (اسم جنس) غیر عرب، جانگلی، غیر مہذب وحشی، اہل فارس العَجَمَ او بلادُ العَجَمَ: فارس Persia عَجَم (اسم جنس) جس کا واحد عجمۃ آتا ہے) گٹھلی، گری، مغز، گڑھا، بیج (پھل کا) عَجَمِی جمع أَعْجَام: جانگلی، غیر مہذب وحشی، غیر عرب، فارسی (صفت واسم) عُجْمَہ جہالت، عدم تہذیب وحشیانہ پن، عربی بولنے میں غلطی۔ عَجْمَاء جمع عَجْمَاوَات: گونگا یا بے زبان جانور۔ أَعْجَم مونث عجماء جمع اعاجم: غلط عربی بولنے والا، گونگا، بے زبان، وحشی، جانگلی، غیر مہذب، غیر عربی، اجنبی، غیر ملکی، پردیسی، فارسی۔ اعجمی: غیر عربی، غیر عرب، اجنبی، پردیسی غیر ملکی فارسی، مُعْجَم: نا قابل فہم، مبہم، غیر واضح (زبان گفتگو)۔ منقوط، نقطے دار جمع مَعَاجِم: کتاب لغت، ڈکشنری، لغات، قاموس (Lexicon) حروف المعجم: حروف تہجی۔

عجن ا۔ عَجَنَ ـِـ عَجْنًا الدقیقَ: آٹا گوندھنا۔ تَعَجَّنَ الشیئُ: گندھ جانا۔ اِعْتَجَنَ الدقیقَ: آٹا گوندھنا۔ ــــ فلانٌ: خمیر بنانا۔ العَجِین جمع عُجُن: گندھا ہوا آٹا۔ العَجِینَۃ: گندھے ہوئے آٹے کا پیڑا۔ المِعْجَن و المِعْجَنَۃ: آٹا گوندھنے کا کونڈا، پرات۔

۲۔ عَجَنَ ـِـ عَجْنًا علی العصا: لاٹھی پر ٹیک لگانا۔ ــــ الرجُلُ: ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اٹھنا (بڑھاپے یا موٹاپے کی وجہ سے) صفت عَاجِن جمع عُجُن: کہا جاتا ہے۔ فلانٌ عجن و خبز یعنی وہ بوڑھا ہو گیا۔ أَعْجَنَ الرجُلُ: کہنہ سال ہونا۔ العَجَّان: بہت آٹا گوندھنے والا۔ العَجِین جمع عُجُن: ہیجڑا۔ العُجُن ڈھیلے ڈھالے (مرد، عورت) العجینۃ: ہیجڑا۔

۳۔ عَجِنَ ـَـ عَجَنًا: الناقۃُ: اونٹنی کا فربہ ہونا۔ العَجِن م عَجِنَۃ من الجمال: موٹا اونٹ۔ العَجْنَاء: بہت موٹی اونٹنی۔

۴۔ عاجنۃُ المکان: جگہ کا درمیانی حصہ۔ العِجَان: سرین، گردن۔ العَجَّان: بیوقوف، العَجْنَاء: کم دودھ والی اونٹنی۔ العَجِینَۃ: بیوقوف، جماعت، گروہ۔

○ عَجَنَ ـِـ عَجْنًا ہ: کو گوندھنا، بھگونا، لَتَّ و عَجَن فی مسالۃ: مسئلہ بار بار پیش کرنا، بار بار ایک ہی مسئلہ کی بات کرنا۔ عَجِین: گندھا ہوا آٹا، لئی۔ عَجِینَۃ: نرم ڈلا، سیلا آمیزہ جمع عَجَائِن: پلاسٹکس (Plastics)

مِعْجَن جمع مَعَاجِن: آٹا گوندھنے کی ناند، آٹا گوندھنے کی مشین۔ مَعْجُون جمع مَعَاجِین: لئی، کریم (Cream) پوٹین۔ معجون۔ معجون الاسنان: دانتوں کا منجن، ٹوتھ پیسٹ (Tooth paste)

عجه ا۔ عَجَّہَ بینهما: دونوں کے درمیان جدائی کرا دینا۔ تَعَجَّہَ: جاہل بننا۔ ــ الامرُ: غیر واضح ہونا۔ مبہم ہونا العُجَاهِن جمع عَجَاهِنَۃ: سیہ، خار پشت۔ غیر خالص النسب۔ خادم، باورچی۔

عجا ا۔ عَجَا ـُـ عَجْوًا الأُمُّ الولَدَ: ماں کا بچہ کو دودھ پلانے کے اوقات کے بعد دودھ پلانا، بچہ کو دودھ پلانا۔ ــــ ہُ اللبنُ: کیلئے دودھ کا غذا ہونا۔ کہتے ہیں۔ لقی فلانٌ ماعجاہ: وہ سختی میں مبتلا ہوا۔ ــــ و عَاجَی الولَدَ: کو ماں کے بجائے کسی اور عورت کا دودھ پلانا، یا دودھ روک کر کھانا کھلانا۔ عَجِیَ ــــ عَجًی الصبیُّ: دودھ کے علاوہ کسی اور چیز سے پرورش پانا۔ العُجَاوَۃ و العِجَاوَۃ و العُجْوَۃ: یتیم کو پلایا جانے والا دودھ۔ العَجِیّ م عَجِیَّۃ جمع عَجَایا: ماں نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور کا دودھ پینے والا بچہ (اونٹ یا انسان کا)۔ العُجِیّ م عُجِیَّۃ جمع عُجَایا و عَجَایا: وہ بچہ جس کی ماں نے اسے اوقات کے بعد دودھ پلایا ہو، وہ بچہ جس نے دوسری عورت کے دودھ پرورش پائی ہو۔

۲۔ عَجَا ـُـ عَجْوًا البعیرُ: اونٹ کا بلبلانا اور سرکش ہونا۔ فلانٌ فاہ: منہ کھولنا۔ ــــ و عجّی وجهَہُ: منہ ٹیڑھا کرنا۔

۳۔ العَجْوَۃ و العُجَاوَۃ: عمدہ قسم کی کھجور۔

○ عَجْوَۃ دبائی ہوئی کھجوریں (Pressed dates)

عجی: عَجَی ـَـ عَجْیًا المراۃ صَبِیَّها: عورت کا اپنے بچہ کو دودھ پلانا۔ العَجَایَۃ و العُجَایَۃ جمع عُجًی و عُجِیّ و عَجَایا: عمدہ قسم کی کھجور۔ جانور کے پہنچے کا پٹھا۔

عدد۔ عَدَّ ـُـ عَدًّا و تَعْدَادًا الشیئَ: کو شمار کرنا، گننا، گمان کرنا، کہتے ہیں۔ عددتُ زیدًا صادقًا: میں نے زید کو سچا گمان کیا۔ عَدَّدَ المیتَ: مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنا، شمار کرنا۔ ــــ الشیئَ: کو شمار کرنا، کو عدد والا کرنا، کو نمبر دینا۔ عَادَّ عِدَادًا و مُعَادَّۃً الشیئَ القومَ: چیز کا قوم پر برابر تقسیم ہونا۔ تَعَدَّدَ و تَعَادَّ: عدد میں بڑھنا، متعدد ہونا کہتے ہیں، ھم یتعددون و یتعادون علی الف: وہ ایک ہزار سے زائد ہیں۔ اِعْتَدَّ: شمار ہونا۔ کہتے ہیں: ھذا شیءٌ لا یعتدبہ: یہ ایسی چیز

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے جس کی طرف التفات نہیں کیا جاتا۔ اِعْتَدَّ الأَمرِ تجارةً: اس نے معاملہ کو تجارت سمجھا۔ اِعْتَدَّ بنفسه: اس نے اپنی ذات پر اعتماد کیا۔ العَدَد جمع أَعْدَاد: شمار، گنتی، گنا ہوا (یہ باب فعل سے مفعول کے معنی میں ہے)۔ ۔ من الانسان. آدمی کی عمر کے سال۔ العدد الصحیح. جیسے ۱، ۲، ۳، صحیح عدد میں وہ عدد جو دو پر تقسیم ہو جائیں اور باقی کچھ نہ بچے انہیں زوج یا مُزْدَوَج کہتے ہیں۔ جیسے ۴، ۱۲۔ العدد المفرد: جو زوج کا برعکس ہو جیسے ۳، ۵۔ العددالاوّلی او الاوّل او الاصلی جو حرف اپنے آپ پر یا ایک پر تقسیم ہو۔ جیسے ۱۱، ۱۳، العدد الکسری او الکسر. اکائی کا جز، یا اجزا جیسے ۱/۲، ۴/۷۔ العدد الموجب جس سے پہلے اشارہ (+) ہو۔ العدد السالب او السلبی. جس سے پہلے اشارہ (ـ) ہو العدد التخیلیّ او الوھمیّ: جیسے ب + ج ن، یہاں ب ج جبری ہیں اور ن جذر ہے۔ العدد التربیعی: عدد کی مطلق یا حسابی قیمت یعنی اشارہ کے بغیر اس کی قیمت جیسے +۴ یا ۔۴ میں ۴۔ العددان المتناظران او المتقابلان (الجبراء میں)۔ ان دو عددوں کی حسابی قیمت ایک ہوتی ہے مگر اشارہ سے مختلف ہو جاتی ہے۔ +۵ و ۔۵۔ پہلے دو عدد کا کوئی بھی صحیح مشترک قاسم نہیں جیسے ۴ و ۹۔ الاعداد المتباینة عند العرب: کسر یا صحیح عدد انہیں باہم شمار نہیں کرتا بصورت دیگر وہ مشترک ہیں۔ الاعداد الموجّهة او الجبریة: (+) یا (-) کے اشاروں کے بعد حسابی عددوں کو کہتے ہیں اور ان میں صفر شامل کیا جاتا ہے۔ العِدّ ج أعْدَادُ: وہ جاری پانی جو منقطع نہ ہو کثرت، کہتے ہیں۔ ھذا برضٌ من عِدّة: یہ بہت سے میں سے تھوڑا سا ہے۔ العِدَّة جمع عِدَد: جماعت، کہتے ہیں۔ عِندِی عِدَّةُ کتب: میرے پاس چند کتابیں ہیں۔ عِدَّةُ المَرأة: عورت کا شوہر کی وفات پر سوگ کا زمانہ، مسلمانوں میں طلاق کا زمانہ بھی عدہ کہلاتا ہے۔ العِدَاد: عاد کا مصدر۔ عطا، بخشش، موت کا وقت، پیشی کا دن، دیوانگی کا اثر، ــــ من الوجع: وقت مقررہ پر درد کا بڑھنا۔ کہتے ہیں۔ به مرضُ عِدَادٍ: اس کا مرض وقت مقرر پر لوٹتا ہے۔ ھو فی عِدَادھم: وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ العَدَّاد: میٹر Meter جیسے سپیڈو میٹر Speedometer سے [illegible] اور بھی کہا جاتا ہے۔ العَدّان والعِدّان جمع [illegible] کسی چیز کا زمانہ یا موسم یا زمانے کا اول اور بہتر حصہ۔ (کہتے ہیں۔ کان ذلك فی عدّان الشباب و علی

عدان ملکه: یعنی یہ اس کے عہد شباب میں اور ملک کے بہترین عہد میں ہوا۔) دور اور پانی یا بارش کی معینہ مدت (سریانی)۔

عَدَّ ـُ عَدًّا ہ / ہ من کو میں گننا، شمار کرنا، نمبر دینا۔ ۔ ہ کو متحد کرنا، گننا، فہرست سے ایک ایک نام پڑھنا، کا حساب لگانا، کو گننا، شمار کرنا، کا اندازہ کرنا، کا تخمینہ لگانا۔ ہ / ہ ہ کو کچھ خیال کرنا، سمجھنا۔ عُدَّ ہ کو کچھ سمجھا جانا، خیال کیا جانا۔ عُدَّ ہ: غلطی سے کچھ سمجھا جانا، ۔ عُدّ ب مراد ہونا، معنی یہ ہونا کہ عدّ الانفاس علیه: کے سانس گننا، یعنی کی سخت نگرانی کرنا، پر کڑی نگاہ رکھنا، کی ہر حرکت کی نگہبانی کرنا۔ عد ہ علی. کو کے مفاد کیخلاف لکھنا۔ لا یُعَدُّ: بے شمار، لا تعداد، ان گنت، عَدَّد ہ کو گننا، شمار کرنا، کو بہت بنانا، کو متعدد کرنا، بڑھانا، کو مرکب بنانا۔ عدّد المیّتَ: مرنے والے کی تعریف کرنا، کی خوبیاں یا اوصاف بیان کرنا۔ اَعدَّ ہ / ہ ل. کو کیلئے تیار کرنا۔ ــــ ہ ل. کو کے لئے تیار کرنا، کو کے مطابق بنانا، کو کیلئے بنانا۔ اعَدَّ ہ: (رپورٹ) تیار کرنا۔ ـــ ہ: اپنا سبق تیار کرنا۔ اَعَدَّ عُدَّتہ ل: کیلئے تیاریاں کرنا۔ تعدّد: متعدد ہونا، گوناں گوں ہونا، مختلف ہونا۔ تعداد میں زیادہ ہونا۔ مرکب ہونا۔ اِعْتدّ ہ / ہ ہ کو کچھ سمجھنا، ــ ب: سے حساب چکانا، پر بھروسہ کرنا۔ ــ ہ ب ل کو کے حساب میں لکھنا، کو کی نیک نامی، شہرت میں لکھنا۔ ــ ہ علی: کو کے مفاد کے خلاف لکھنا۔ ــ علی ب: کی وجہ سے کسی کے خلاف احتجاج کرنا۔ ــــ ب: سے آراستہ ہونا، ــــ عورت کا دوسری شادی سے قبل عدت میں ہونا۔ اِسْتَعَدَّ: تیار ہونا۔ ــــ ل: کیلئے تیار ہونا، آمادہ ہونا، مستعد ہونا، عُدَّة: تیاری۔ جمع عُدد: ساز و سامان، لباس، اوزار، آلہ، ہتھیار، وسیلہ، تدبیر، صیغہ، ترکیب، ایجاد، اختراع، (بادبان وغیرہ کے) رسے، سامان، بادبان، (گھوڑے کا) ساز و یراق، اخذ او اَعَدَّ عُدَّتَه ل: کے لئے تیاریاں کرنا۔ اخذ عُدّة الشی: کیلئے تیاریاں کرنا۔ عدةُ الساعة: چرخدار اور کمانی دار (کل) (Clock work) عِدّة: عدد، کئی (رجال عِدّةٌ: بہت آدمی۔ عِدَّةَ مرّات: کئی بار،) عدت مطلقہ اور بیوہ ہونے کے بعد عورت کے دوسری شادی سے پہلے مقررہ وقت کا انتظار (اسلامی قانون میں)، عَدَد جمع اعداد: نمبر، ہندسہ (صفر سے ۹ تک کا کوئی ہندسہ) صفر، مقدار، کمیت، تعداد، نمبر، شمارہ (اخبار وغیرہ کا) عدد خاص، خاص شمارہ، خاص عدد، خاص نمبر۔ عدد عدید: بڑی مقدار، بڑا ہجوم۔ عدد عدیدٌ ذلك

اس کے برابر ہے۔ عدّاد جمع عَدّادات: گننے والا یا شمار کرنیوالا، میٹر (جیسے بجلی گیس وغیرہ کا میٹر)۔ تعدادُ الانفس: مردم شماری (Census)۔ لا عِدادله: بے شمار، ان گنت، فی عداد. کے درمیان میں، جیسے ھو فی عِدادھم: وہ ان میں سے شمار کیا جاتا ہے، وہ ان میں سے ایک ہے۔ إعدادی ابتدائی (Preparatory) شهادةٌ إعْدادِيّة: ثانوی سکول کے چار سال مکمل کرنے پر دیا جانے والا سرٹیفکیٹ۔ تَعُّددُ الآلِهَةِ: شرک۔ Polytheism۔ تعدد الزوجات: کثیر الازدواجی (Polygamy)۔ إعْتِدادٌ ب: پر اعتماد، بھروسہ، اعتبار۔ الاِسْتعدادلِ. کے لئے تیار ہونا، آمادہ ہونا، مائل ہونا، کے قابل ہونا، پر قدرت رکھنا۔ استعدادی: ابتدائی Preporatory۔ معدود: قابل شمار، محدود تعداد میں، تھوڑا، چند، کچھ۔ مُعَدِّدَة: کرایہ پر لی ہوئی، ماتم کرنے والی۔ مُعَدٌّلِ: کے لئے مقرر شدہ، ہو کر رہنے والا، کیلئے تیار، تیار کیا گیا، کے لئے آمادہ۔ مُعَدّات: ساز و سامان، گیئر، اوزار، ہتھیار۔ معدات حربية: یا (عسکریہ)؛ جنگی سامان۔ معدات الحریق: آگ بجھانے کا سامان۔ متعدد الخَلایَا: متعدد خانوں والا۔ متعدد النواحی: گونا گوں، مختلف، بوقلموں متنوع، قسم قسم کا، مختلف قسموں کا۔ العَدَدِی: عدد کی طرف منسوب، جو چیز گنتی سے بیچی جائے۔ العدید جمع عَدائِد: عدد کا اسم شمار تعداد کہتے ہیں: ما أكثرَ عديدهم: ان کا شمار کس قدر کثیر ہے یا ان کی تعداد کس قدر زیادہ ہے۔ ھذه الدراھم عدیدُ ھذه: یہ درہم اس کی مقدار میں ہیں یعنی اس کی قیمت کے برابر ہیں، شمار کیا ہوا۔ ــــ من القوم: جو شخص قوم میں شمار کیا جائے۔ العَدَائِد: تقسیم شدہ مال، میراث۔ ۔ العدیدة: عدید کا مونث، حصہ۔ ایام عدیدة جمع عدائد: چند دن، گنے چنے دن۔

۲۔ عَدَّدَ المالَ: زمانہ کے لئے ساز و سامان بنانا۔ اَعَدَّهُ لِأَمْرٍ: کو کیلئے تیار کرنا، حاضر کرنا۔ اِسْتَعَدَّ للامر: کیلئے تیار ہونا، العُدَّة جمع عُدَد: تیاری، (کہتے ہیں۔ کونوا علی عُدَّة: تیار ہو،) سامان جنگ مال وغیرہ، کہتے ہیں۔ اخذ للامر عُدَّتَه: اس نے معاملہ کے لئے سامان تیار کرلیا۔ عُدّة الفرس: کاٹھی، زین۔ عدَةُ البنّاء والنجّار وغیرھما: معمار، بڑھئی وغیرہ کے اوزار۔ المُعِدّ (نا): پورے سامان والا۔

۳۔ عَادَّ عِدَادًا و مُعَادَّةً: سے لڑائی میں مقابلہ کرنا۔ العِد جمع اَعداد: ہمسر، کہتے ہیں ھو عِدّك: وہ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تمہارا ہمسر ہے۔ التعداد ہمسر۔ التعدید جمع
عداید ہمسر، ہم مثل۔ العَدَائِد ہم مثل۔ (جمع)
۴۔ الغُدَّہ چہرے کی پھنسیاں۔ العِدّ جمع اَعْداد۔ پرانا
کنواں۔ العِداد من القوس کمان کی آواز۔
عدر ۱۔ عَدَرَ ــــ عَدْرًا و عُدْرَۃً جرأت کرنا، دلیری
کرنا۔
۲۔ عدِرَ ۔ عَدَرًا و اعْتَدَرَ المکانُ جگہ کا زیادہ پانی والا
ہونا۔ ـــ المطر بارش کا بکثرت برسنا۔ العَدَر
و الغدَر کثیر موسلا دھار بارش۔
۳۔ العَادِر جھوٹا، پھسلنے والا۔ العَدَّار ملاح۔
عدس ۱۔ عدَس ـــ عدْسًا ؤ کی خدمت کرنا۔ ـــ
المواشی مویشیوں کو چرانا۔
۲۔ عدس ـ عَدَسَ الشئی کو سخت روندنا۔ ـــ عدَس
عدسانًا و عِداسًا و عُدُوسًا فی الارض زمین
میں جانا، سفر کرنا کہتے ہیں۔ عدست بہ المَنِیَّۃُ اسے
موت لے گئی۔ عادس الرجُلُ ہمیشہ چلتا رہنا، نہ
رکنا۔
۳۔ عَدِس (طب) پھنسیوں والا ہونا صفت۔ مَعْدُوس۔
العدس واحد عدسۃ (ن) مسور۔ عَدَسُ الماء
(ن) دلدلوں اور جھیلوں میں تیرتے ہوئے اور بڑے
بڑے رقبوں پر چھائے ہوئے پودے۔ العَدَسۃ
کیل، مہاسہ۔
۴۔ عدس خچر ہانکنے کی آواز۔ خچر کا نام۔ العدسۃ
العدسیۃ (ف) لینس (Lens)، کیمروں،
دوربینوں اور عینکوں میں استعمال ہونے والا شیشہ۔
عدس اسم جنس (واحد عدسۃ)، مسور۔ عدسۃ جمع
عدسات لینس (Lens)، محدب شیشہ، کلاں نما
Magnifrying Glass مشاہدے کا لینس
(Object lens)
عدف ۱۔ عَدَفَ ـ عَدْفًا و تعدّف تھوڑا کھانا، کم کھانا،
کہتے ہیں۔ ماعَدَفْتُ او ماتعَدَّفْتُ الیوم یعنی
آج تو میں نے تھوڑا سا بھی نہیں کھایا۔ چہ جائیکہ بہت
سا کھاتا۔ العَدْف جمع عُدُف تھوڑا سا عطیہ، تھوڑا
سا چارہ، کہتے ہیں۔ ماذقنا عَدْفًا و عَدَفًا و عُدافًا
و عَدُوْفَۃً یعنی ہم نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں
چکھی۔ العَدُوف تھوڑا سا چارہ، کہتے ہیں۔ ماذقنا
عَدُوفًا ہم نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں چکھی۔
۲۔ عَدَفَ الثوبَ کپڑے کا ٹکڑا لینا۔ العِدْفُ لوگوں
کی ایک جماعت، رات کا ایک حصہ۔ العِدْفۃ جمع
عِدَف کسی چیز کا ایک ٹکڑا، لوگوں کی ایک جماعت۔
العَدَفۃ جمع عدف زمین کے اندر درخت کی جڑ۔

التَعَدُّف چیز کا ٹکڑا۔
عدق عَدَقَ ـ عَدْقًا و عَدِقَ ـ عَدَقًا و عَدَقَ و اَعْدَقَ
بِیَدِہٖ کنویں یا تالاب کے کناروں میں کوئی چیز تلاش
کرتے ہوئے ہاتھ ڈالنا۔ ـــ بظنّہٖ انگل سے کام
لیتے ہوئے کچھ تلاش کرنا۔ العَدَقۃ و العَوْدَق
و العودَقَۃ جمع عَدَق۔ ڈول کنویں سے نکالنے کے
لئے استعمال کیا جانے والا، تین شاخوں کا کانٹا۔
عدك عَدَكَ ـ عَدْكًا الصوف اون کو دھننے کے لئے
ڈنڈے سے مارنا۔
المِعْدَكَۃ اون دھننے کا ڈنڈا۔
عدل ۱۔ عدَل ـــ عَدْلاً السہمَ ونحوہٗ تیر وغیرہ کو
سیدھا کرنا۔ ـ فلانًا بفلان کو کے ساتھ یکساں درجہ
پر رکھنا۔ ـــ فلانًا کا موازنہ کرنا۔ ـــ بربہ شرک
کرنا۔ عُدُولاً ؤ فی المحمل کے ساتھ ڈولی میں
سوار ہونا، کہتے ہیں۔ مایعدلك عندی شئی
میرے نزدیک تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ ـــ عَدْلاً و
عَدالۃً و عُدولۃً و مَعْدَلۃً و مَعْدِلۃً انصاف کرنا،
صفت عادل جمع عُدُول۔ عَدُل ـ عَدالۃً عادل
ہونا۔ عَدَّل الشِعْرَ شعر کو درست وزن پر کرنا۔ ـــ
المتاع سامان کو دو برابر حصوں میں کرنا، سامان کی دو
گٹھریاں بنانا، کہتے ہیں شرب حتی عدّل اس
نے اتنا پیا کہ پیٹ گٹھری کی طرح ہو گیا۔ عادَل عِدالاً
و معادلۃً ؤ کا موازنہ کرنا، کو ہم وزن کرنا۔ ـــ ہ فی
المحمل کے ساتھ ڈولی میں سوار ہونا۔ ـــ بین
الشیئین دونوں کو برابر درجہ دینا۔ جب دو باتیں پیش
آئیں اور سمجھ میں نہ آئے تو کس کو اختیار کیا جائے تو
کہتے ہیں عادل بین الامرین۔ اعْتَدَلَ الشئی کو سیدھا
کرنا، ہموار کرنا۔ اِعْتَدَلَ سیدھا ہونا۔ دو حالتوں
میں متوسط حال اختیار کرنا۔ العادِل (فا) جمع عُدُول۔
مُشرک۔ العَدْل (مص) انصاف، عادل (کہتے
ہیں۔ رجُلٌ عَدْلٌ و امرأۃٌ عَدْلٌ و عَدْلَۃٌ و رجال
عَدْلٌ عادل مرد یا عورت۔ رجُلانِ عَدْلانِ و
رجال عُدُول دو یا زیادہ عادل مرد۔) پیمانہ، جزاء،
بدلہ، برابری، معاملات میں اعتدال، متوسط بات،
استقامت۔ ـــ جمع اَعْدال نظیر، مثل۔ العِدْل جمع
عُدُول و اَعْدال تغیر، مثل، قیمت (کہتے ہیں۔
خُذْ عِدْلَہٗ کذا او کذا اس کی اتنی قیمت لے لو۔)
گون۔ جانوروں کی پیٹھ پر ایک طرف کا بوجھ۔
العَدَل دونوں گونوں کی برابری۔ العَدِل عادل،
منصف۔ العَدِیْل جمع عُدَلاء نظیر، مثل، ردیف۔
الاعتدال الربیعی موسم ربیع میں رات دن کا برابر

ہونا۔ الاعتدال الخریفی موسم خریف میں رات
دن کا برابر ہونا۔ نقطۃ الاعتدال الربیعی
والخریفی (فلك) نقطہ اعتدال، اعتدال شب و
روز (equinox) المعادلۃ (ع ج) مساوات
(حساب میں) توازن۔ مُعَدَّلات البیت گھر کے
کونے۔
۲۔ عدَل ـ عدْلاً الطریقُ راستہ کا ٹیڑھا ہونا۔ ـ عَدْلاً
و عُدُولاً عن الطریق راستہ سے ہٹنا۔ ـ عُدولاً
الیہ کے پاس واپس آنا، سے رجوع کرنا۔ عَدِل ـ
عدلاً ظلم و جور کرنا۔ عادَل عِدالاً و مُعادَلۃً الشئی
ٹیڑھا ہونا۔ ـــ فی الامر معاملہ میں متردد ہونا۔
انعدل عن الطریق راستے سے ہٹنا۔ العَدَل
معاملات میں اعتدال، العِدال (عادل کا مصدر)
کہتے ہیں۔ قطع العدال فی امرہ اس نے اپنے
معاملہ کا پختہ ارادہ کر لیا۔ المَعْدِل و المَعْدُول
پھرنے کی جگہ کہتے ہیں۔ مالہ مَعْدِل او مَعْدُول
عن کذا اس کے لئے فلاں بات سے پھرنے کی
کوئی جگہ نہیں۔ اخذ مَعْدِل الباطل اس نے باطل
راہ اختیار کی۔
۳۔ عَدَّل الشاھِدَ گواہ کو قابل اعتبار قرار دینا۔ العَدَلَۃ
و العُدَلَۃ معتبر گواہ۔ بعض کے نزدیک عُدَلَۃ واحد کیلئے
اور العَدَلَۃ جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
○ عَدَل ـ عَدْلاً و عَدَالۃً انصاف کرنا۔
○ عَدَل ـ عدُولاً عن الی ـ سے کی طرف پھرنا سے کی
طرف انحراف کرنا۔ عَدَل عن سے روگردانی کرنا، کو
ترک کرنا، سے بے تعلق یا لاعلمی ظاہر کرنا، کا انکار کرنا۔
عدل بہ عن کو سے باز رکھنا، کو سے علیحدہ کرنا، کو
سے دستبردار کرنا، عادَل ہ/ ہ کے برابر ہونا، ـــ ہ
جتنا ہونا۔ ـــ ہ کے مقابل میں اپنا وزن رکھنا، سے
زیادہ بھاری ہونا، سے زیادہ اہم ہونا۔ ـــ بین ـ و
بین دو شخصوں یا چیزوں کو برابر درجہ دینا۔ برابر سمجھنا۔
اعدل ہ کو سیدھا کرنا، یا سیدھا رکھنا۔ تعَدّل تبدیل
ہونا، میں ترمیم ہونا، ترمیم یا تبدیلی سے گزرنا۔
تعادل متوازن ہونا، برابر ہونا۔ اعتدل سیدھا
ہونا، ہموار ہونا، متوازن ہونا، معتدل ہونا۔ عَدْلاً
انصاف سے، از روئے انصاف۔ وزیر العدل
وزیر انصاف۔ عَدْلیّ عدالتی، قانونی، ججوں سے
متعلق، قانونی کارروائی سے متعلق، فقیہانہ عِدْل
برابر، مترادف، مماثل، مساوی، جمع اعْدال و عُدُول
بار برداری کے جانور پر لدے ہوئے وزن کے دو برابر
نصف حصوں میں سے ایک، بوری، تھیلا، عدیل

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

برابر، مانند، مترادف، مماثل، مساوی، جمع عدائل۔ بھنوئی۔ عَـدَالة: انصاف، غیر جانبداری، دیانت داری، دیانت، ایمانداری، سلیقہ، شائستگی، معقولیت، مناسب کردار، قابل احترام ریکارڈ۔ وزیر العدلیّة: وزیر انصاف۔ اَعْـدَل زیادہ باقاعدہ، زیادہ یکساں، زیادہ متوازی، زیادہ منصفانہ، زیادہ انصاف پرور، تـعـدیـل وزاری کابینہ میں ردوبدل Cabinet Rashuffle تـعادل الاصوات. ووٹوں کی یکساں تعداد۔ ٹائی ووٹ۔(Tie vote) مُـعَـدَّل: اوسط، اوسط تعداد یا رقم، مـعـدل الســرعه اوسط رفتار۔ بـمُعَدَّل: بطور اوسط اوسطاً۔

عدم: عَدِم ـ عُدمًا و عَدَمًا المالَ مال سے محروم ہونا، کو کھونا، گنوا دینا، کہتے ہیں۔ مابَعُدَمنی هذاالامرُ یہ معاملہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ عَـدُمَ ـ عُدَامَةً بیوقوف ہونا۔ اَعْـدم اعْـدَامًـا الـرجـل محتاج ہونا صفت مُـعْـدِم و عَـدِیـم ـ ٥ الشیٔ کو ـ سے محروم کرنا ـ فلانًا کو منع کرنا۔ اَعْـدَمِنی الشیُٔ. میں نے چیز کو نہیں پایا۔ العُدْم و العُدُم فقدان۔ العَدَم فقدان، عدم وجود، العَدِم محتاج، فقیر۔ العَدِیم جمع عُـدَمـاء فقیر، احمق، دیوانہ، غیر موجود کہتے ہیں ھـو عدیمُ النظیر: اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ الـمَـعْـدُوم (مـفـع) غیر موجود۔ ــــ المُنْعَدِم (ع ح). صفر کے برابر۔

عَدِمَ ـ عُدْمًا و عَدَمًا ـه ـ سے محروم ہونا، خالی ہونا، کا ضرورت مند ہونا، ناقص ہونا، کو نہ رکھنا۔ ٥ ـه کو کھونا، کی کمی محسوس کرنا۔ عُـدِم. کم ہونا، مفقود ہونا، غیر حاضر ہونا، غیر موجود ہونا، مفقود ہونا، جاتا رہنا، غائب ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ عُـدَم ٥ ـه کو ـ سے محروم کرنا۔ کوئی چیز اس کے پاس نہ رہنے دینا، کو کسی چیز کے گنوانے یا اس کی کمی کا باعث بننا۔ ـ ٥ ـه کو برباد کرنا، تباہ کرنا، صفحۂ ہستی سے مٹا دینا۔ ــ ٥ کو قتل کرنا، کی گردن مارنا، کو پھانسی دینا۔ تَـعْـدَم غریب ہونا، یا ہو جانا، انْـعـدم عـدِم کے معنی میں۔ عـدَم عدم وجود، احتیاج، حاجت ضرورت، کمی، غیر موجودگی، غیر حاضری، نقصان، غریبی، غربت، افلاس، مفلوک الحالی، محرومی، جمع اَعْدَام: عدم غیر اہم شخص، معدوم شی بے لطفی، معمولی سی چیز۔ عـدم الاهـتـمام بے توجہی بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی۔ عدم الاختصاص بے اختیاری۔ عـدم الـوجـود عدم وجود، نیستی، عَـدَمـی ہر مروجہ نظام کا مخالف (nihilist)۔ عَـدَمیّة عدم وجود، معاشرہ میں ہر قسم کے منظم نظام حکومت کے قیام کی مخالفت (Nihilism)۔ عـدیـم الحیاة بے جان، عـدیـم النظیر بے مثال، بینظیر، فقید المثال، منفرد۔ اِعـــدام پھانسی دینا۔ الحکم بالاعدام پھانسی کا حکم یا فیصلہ۔ اعدامیة عقال کے بغیر سر پر رکھنے کی چادر (سوگ کی علامت کے طور پر)

عَـادِم جمع عَوَادِم غیر موجود، مفقود، ناقابل بحالی، ناقابل اصلاح، ردی (مرکب الفاظ میں) جمع عوادم: ردی، فضلہ، ردی اشیاء، الـمیـاه الـعادمة گندے نالے کا پانی، عـوادم الاقـطـان: اس سوت کا گودڑ cotton waste۔ انـبـوبة الـعـوادم بچی کھچی بھاپ وغیرہ نکالنے کا پائپ۔ Exhaust pipe جو کاروں اور دوسری گاڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

عدن ١۔ عَـدَن ـــ عَدْنًا و عُدُونًا بالمکان کسی جگہ پر اقامت کرنا۔ رہائش کرنا ـــ البلدَ کسی ملک کو وطن بنانا۔ ــــ ـِـ عَدنًا الحجرَ پتھر اکھاڑنا۔ عَدَّن الارضَ بــالـمِـعْـدَن: زمین سے معدنیات نکالنا۔ الـعَـدْن: عَـدَن کا مصدر۔ جـنّـةُ عَـدْن: وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو رکھا۔ جـنـاتُ عَدنٍ: ہمیشہ رہنے کی جنتیں۔ عَـدَن: یمن میں ایک شہر کا نام۔ الـعـدَنِـی عدن سے منسوب، عمدہ اخلاق والا۔ المَعْدِن جمع مَعَادِن: ہر چیز کا منبع۔ (فـلانٌ معدِنُ الـخـیـر فلاں بھلائی کا منبع ہے) سونے، چاندی، لوہے وغیرہ کی کان۔ المِعْدَن: ہتھوڑا یا وہ اوزار جس سے پتھر نکالے اور توڑے جاتے ہیں۔ الـمُـعَـدِّن: (فـا): کان کن، سونا چاندی نکالنے والا۔ التعدین: دھاتوں اور دیگر معدنیات نکالنے ان کو صاف کرنے اور ان کو کام میں لانے کا علم، کان کنی کی صنعت۔

٢۔ عَـدَن ـــِ عَدْنًا الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ عَدَّن الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔

٣۔ عَدَّن الشاربُ پینے والے کا سیر ہونا۔

٤۔ الـعَـدَان سمندر کا ساحل، دریا کا کنارا۔ الـعَـدَانة جمع عَـدَانـات گروہ، کہتے ہیں۔ تـانـا عَـدَانـاتٌ: ہمارے پاس لوگوں کے گروہ آئے۔ العَدِینَة: ڈول کا پیوند۔ العَیْدَانة جمع عَیْدَان: کھجور کا لمبا درخت۔

عَـدْن. عَدْن بہشت، جنت۔ عَدَن جنوبی عرب میں ایک شہر کا نام، مَعْدِن جمع معَادِن کان، کان میں کچی دھات کی پرت، دھات، معدنی چیز، معدنیات، دفینہ (Treasure trove)، خوشحالی، (مجازی): (جائے) اصل، سرچشمہ، منبع۔ عـلـم الـمـعـادن [illegible] گہرائی میں جانا۔ مـعـدنیـات علم معدنیات۔ مـاء مـعـدنـي. معدنی پانی، سوڈا بوتل، مُعَدِّن کان کن۔ عَدْنان شمالی عربوں کا روایتی بزرگ۔

عدا ١۔ عَـدا ـــُ عَدْوًا و عَدَوَانًا و عُدُوًّا و تَعْدَاءً و عَدًا دوڑنا۔ ـ عَدْوًا و عُدُوانًا علیه. پر حملہ کرنا۔ عَـادَی عِـداءً و مُـعَـاداةً بین الصَّیْدَین ایک دوڑ میں دو شکار مارنا۔ اَعْـدَی الـرجُـل کو دوڑنے پر اکسانا۔ تَـعَـادَی الـقـومُ ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرنا۔ ـ ت النوائبُ مصیبتیں پے در پے ہوئیں۔ اِسْـتَـعْـدَی الـفـرس گھوڑے کو دوڑانا۔ الـعَـادِیَة جمع عَوَادٍ: جنگ کے لئے تیار جماعت حملہ آور گھوڑے سوار۔ الـعَـدَاء و الـعِـداء. ایک دفعہ کی دوڑ۔ کہتے ہیں۔ عَـدَا الـفـرسُ عِدَاءً او عِدَاءَیْن اجـدًا گھوڑے نے ایک دوڑ لگائی۔ الـعَـدّاء تیز دوڑنے والا، اچھا دوڑنے والا۔ الـعَدْوَة: ایک مرتبہ کی دوڑ۔ العَدَوان: تیز دوڑنے والا۔ العَدِیّ: جنگ کے لئے تیار گروہ۔

٢۔ عَـدَا ـــُ عَدْوًا و عُدْوانًا فلانًا عن الامر: کو معاملہ سے باز رکھنا، کہتے ہیں۔ ـــ عَـدَا مـمـا بـدا. تمہاری طرف سے جو کچھ ظاہر ہوا اس کے بعد تمہیں مجھ سے کس بات نے دور کیا۔ ـ الامرَ و عن الامر کو چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں عـدا طـورَهُ او قَدْرَهُ: اس نے اپنے مرتبہ سے تجاوز کیا۔ ــــ عَـدْوًا و عُدُوًّا و عَدَاءً و عَـدْوانـا و عِدْوَانًا و عُدْوَی علیه پر ظلم کرنا، سے زیادتی کرنا۔ عَـدَا، مـا مصدریہ کے ساتھ یا اس کے بغیر کلمہ استثناء ہے اور تمام احکام میں خلا کی مانند ہے۔ کہتے ہیں حَاءَ القومُ عَدا زیدًا و عدا زیدٍ نصب و جر کے ساتھ اور ماعدا زیدًا صرف نصب کے ساتھ آتا ہے۔ (زید کے سوا سب لوگ آئے) عَـدِیَ ـــ عدًا له ن ـ سے بغض رکھنا۔ عُدِیَ علی فلان پر ظلم کیا گیا، کا مال چوری کیا گیا۔ عَدَّی الشیٔ کو نافذ کرنا، کو جائز قرار دینا۔ ــــ عن الامر: کو چھوڑ دینا، (کہتے ہیں۔ عَـدِّ عـمـا تَـرَی سے اپنی نگاہ ہٹا لے۔) ـ فلانًا عن الامر کو معاملہ سے باز رکھنا۔ الـفـعـلَ فعل لازم کو متعدی بنانا۔ عَـادَی عِـداءً و مُعَاداةً الشیٔ. کو دور کرنا۔ فـلانًا. سے جھگڑنا، کا دشمن ہو جانا اَعْـدَی الامرَ معاملہ کی جانب دوسرے سے آگے بڑھنا۔ ـ علیه پر ظلم کرنا۔ فی کلامه گفتگو میں (کسی کے ساتھ) زیادتی کرنا۔ ـ ٥ شرًّا کو نقصان پہنچانا۔ ـ ٥ من عِلّة او خُلُق. کو اپنی جیسی بیماری لگا دینا یا اپنی جیسی طبیعت کا عادی بنا دینا، کہتے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہیں۔ قرینُ السوءِ یُعدی قرینَہ: بُرا ساتھی ہم نشین کو برا بنا دیتا ہے۔ تَعَدَی الشیئَ: سے تجاوز کرنا۔ ــ الشیٔ الی آخر: ایک سے دوسری چیز تک جانا۔ تَعَدَّی الفعلُ: فعل کا متعدی ہونا۔ ــ علیہ: پر ظلم کرنا۔ تعادی الرجُلُ: دور ہونا۔ ــ المکانُ: جگہ کا ناہموار ہونا۔ ــ القومُ: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، کہتے ہیں کہ تَعَادَی القومُ اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک جیسی بیماری ایک کے بعد دوسرے کو لگ جائے۔ ــ مابینھم: کے درمیان اختلاف ہونا فساد ہونا۔ اِعْتَدَی الحقَّ و عن الحقِّ و فوقَ الحقِّ: حق سے تجاوز کرنا، گویا معنی یہ ہے کہ حق سے گزر کر ظلم کرنے لگنا، ــ علی فلان: پر ظلم کرنا۔ العَادِی (فا) جمع عُدَاۃ ظالم، حد سے بڑھنے والا، دشمن، چورا، اُچکنے والا، شیر، عَادِی العوادِی: ایسے سخت ترین کام جو دوسرے کاموں سے باز رکھیں۔ العَادِیَۃ جمع عوادٍ: عادی کا مونث، دوری، بُعد مشغولیت، سخت غصہ، غضب، طیش، عادِیۃُ السمِّ: زہر کا ضرر کہتے ہیں۔ فعتُ عنك عَادِیَۃَ فلان: میں نے تجھ سے فلاں کا ظلم اور شر دور کر دیا۔ عَوَادِی الدھر: زمانے کے موانع و گردشیں کہتے ہیں۔ صَرَفَتْہُ عن کذا عوادٍ: موانع نے اس کو ایسے ایسے کاموں سے روک دیا۔ العَدَاء (مص): مشغولیت۔ دوری۔ العداوَۃ: دشمنی، دوری، العَدُوّ جمع اعداء و جج أعادٍ: دشمن۔ العُدْوَۃ: دور جگہ، العُدَوَاء: دوری۔ مشغولیت۔ عُدَوَاءُ الشوق: شوق کی تکلیفیں العدواءُ الشغل: کام کے موانع، کہتے ہیں۔ طالت عُدَوَاؤُھم: ان کا افتراق اور دوری بڑھ گئی۔ العُدْوَان: خالص ظلم، کہتے ہیں۔ لاعُدوان علیّ: میرے اوپر کوئی روک نہیں۔ العَدْوَی: فساد، خرابی، (طب) متعدی مرض۔ مرض کی بیمار سے صحت مند میں منتقلی، العِدَی: دور ہونے والے، پردیسی لوگ۔ جمع عَدُوّ: دشمن (جمع)۔ العُدَی: عدو کا اسم جمع ہے۔ المَعْدَی: گزرگاہ کہتے ہیں۔ مالی عن فلان مَعْدًی: میرے لئے فلاں شخص سے گزر کر دوسرے تک جانے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ المَعْدِیّ: مظلوم۔

۳۔ أعدی فلانًا علی فلان: فلاں کی فلاں کے خلاف مدد کرنا، اور تقویت دینا۔ اِسْتَعْدَی الرَّجلَ: سے مدد طلب کرنا۔

۴۔ عَدَاءُ الوادی: وادی کا درمیان۔ العِدَاء و العِدُو: چھوٹا پتھر جس سے کچھ چھپایا جائے۔ العُدْوَۃ و العَدْوَۃ و العِدْوَۃ: جمع عِداء و عَدَوَات: بلند جگہ، وادی کا کنارہ اور جانب، العُدَوَاء: خشک اور سخت زمین۔ العِدَی: وادی کا کنارہ، چھوٹا پتھر جس سے کچھ چھپایا جائے۔ والعَدَی جمع أعْدَاءٍ: کنارہ، جانب۔ العُدَی: بلند جگہیں۔ عَدِیّ: قبیلہ۔

○ عَدَا ـُ عَدْوًا: دوڑنا۔ ــ ہ/ ہ او عن: کے پاس سے گزرنا، کو ترک کرنا، چھوڑنا۔ ــ ہ: کو چھوڑ جانا، سے بچ کر نکل جانا، کنی کترانا، کو چھوڑ دینا۔ ــ ہ ب: سے کسی کا ناک میں دم نہ کرنا۔ کو سے مستثنیٰ کرنا۔ ــ ھ: کے پار جانا، کو عبور کرنا۔ میں سے ہو کر گزرنا، کی حد سے بڑھنا، کی حد سے تجاوز کرنا، سے ماوراء ہونا، سے بلند تر ہونا، ــ الی: کو چھوت لگانا۔ عدا ـُ عَدْوًا و عُدُوًّا و عَدَاءً و عُدْوَانا و عِدْوَانًا علی: کیخلاف جارحانہ، معاندانہ، کارروائی میں مشغول ہونا، پر جارحیت کرنا، کے خلاف معاندانہ اور مخالف کاروائی کرنا۔ پر ظلم کرنا، سے ناانصافی کرنا۔ پر حملہ کرنا۔ عَدَا عَدْوًا ہ عن: کے لئے کسی کام میں روڑا اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا، کو سے روکنا، کسی کام میں کی راہ میں حائل ہونا، کو سے روکنا، باز رکھنا۔ طَوْرَہُ: اپنی حدود سے ماوراء اور بلند تر ہونا۔ لایعدو ان یفعلہ: کچھ کرنے میں ناکام نہ ہونا، کو لازماً کرنا۔ لایعدو ان یکون: یہ اس سے زیادہ نہیں، یہ صرف ...... ہے۔ عَدَّی: پار کروانا، حد سے بڑھنا، سے بڑھنا یا ماوراء اور بلند تر ہونا۔ ــ ہُ: کو دریا کے پار لے جانا۔ ــ ہ: فعل لازم کو متعدی بنانا۔ ــ ہ/ ھ یا عن: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ ــ ہ: پار کرنا (جیسے دریا) عاداہ: کو دشمن سمجھنا، سے دشمن جیسا سلوک کرنا، کے بارے میں دشمنی ظاہر کرنا، کے خلاف جنگ کرنا، سے دشمنی کرنا، کیخلاف معاندانہ کارروائی کرنا۔ ــ ہ/ ھ کا توڑ کرنا، دفعیہ کرنا، کی مخالفت کرنا۔ ــ ہ: کی خلاف ورزی کرنا، کو توڑنا، کیخلاف کرنا۔ اعْدَی ہ من: کو کسی بیماری کی چھوت لگانا، کو کوئی بیماری منتقل کرنا۔ تَعَدَّی ھ: کو پار کرنا، کے پار جانا، کی حد سے بڑھنا، کو قطع کرنا، میں سے ہو کر گزرنا، سے بڑھنا، تجاوز کرنا، سے بلند تر ہونا، سے ماوراء ہونا، سے بازی لیجانا، پر سبقت لیجانا۔ ــ ہ الی: سے بڑھ کر پر متوجہ ہونا، تک محدود نہ رہنا بلکہ کسی اور چیز کو بھی شامل کر لینا، کو تک بڑھانا۔ ــ ھ: سے آگے نکل جانا، کو پیچھے چھوڑ جانا۔ ــ ھ: کو زیر کرنا، پر قابو پانا، پر غلبہ پانا، کو دور کرنا (جیسے بحران پر قابو پانا یا اسے دور کرنا)۔ ــ إلی: تک منتقل ہونا، پھیل جانا، ــ ھ (قانون وغیرہ) کی خلاف ورزی کرنا، قانون توڑنا قانون کی حد سے بڑھنا، ــ علی: کے خلاف بہیمانہ اور معاندانہ کارروائی میں مشغول ہونا، پر جارحیت کرنا، کے خلاف ناانصافی سے کام لینا، پر حملہ کرنا، پر خواہ مخواہ وقت ضائع کرنا، تجاوز کرنا، تعدی علیہ بالضرب: سے ہاتھا پائی پر اتر آنا، کو ہتھیانا، پر اپنا قبضہ جمانا۔ تعادی: باہم دشمنی دل میں رکھنا، ایک دوسرے کے خلاف ہونا، دشمن ہونا۔ اِنعَدی ب: کی بیماری لگ جانا۔ ــ من: سے متعدی مرض لینا۔ إعْتَدَی ھ: کو پار کرنا، کے پار جانا، کی حد سے بڑھنا، سے ماوراء ہونا، سے بلند تر ہونا، سے بڑھ جانا، پر سبقت لیجانا، سے آگے نکل جانا۔ ــ علی: کے خلاف اخلاق سوز، شرمناک، توہین آمیز، غیر قانونی اور بہیمانہ عمل کرنا، کے خلاف جارحانہ، بہیمانہ اور معاندانہ کارروائی میں مشغول ہونا، کے خلاف جارحیت کرنا، معاندانہ کارروائی کرنا، سے ناانصافی کرنا۔ ــ علی: (عورت کی) عصمت دری کرنا، ــ علی: پر حملہ کرنا، پر تجاوز کرنا۔ ــ علی: پر قاتلانہ حملہ کرنا، استعدی ہ علی: سے کے خلاف مدد کی اپیل کرنا، کو کے خلاف اکسانا بڑھکانا۔ ماعدا یا فیماعدا: کے سوائے، کے سواء فیما عدا ذلك: بھی، کے علاوہ، مزید برآں، عَدْو: دوڑنا، دوڑ کا مقابلہ۔ عُدْوَۃ: پہلو، وادی کا نشیب، دریا کا کنارہ، یا پشتہ یا بند، ساحل۔ عَدُوّ جمع أَعْدَاء و عِدیً و عُدیً و عُدَاۃ و أعَادٍ م عَدُوّۃ: دشمن عدو لَدُود (لَدِید، الَدّ) حریف، دشمن، بڑا دشمن، عَدُوّہ عَدُوّ کا مونث ــ عَدِی: جارحیت پسند، عَدَاء: دشمنی، نفرت، سخت دشمنی، جارحیت، عَدَائی: معاندانہ، مخالفانہ، جارحانہ۔ عَدّاء: دوڑنے والا، دوڑ میں مقابلہ کرنے والا۔ أَعْدَی الأَعْدَاء: بدترین دشمن۔ عَدْوَی: وبائی مرض، متعدی مرض، چھوت، عُدْوَی: جارحانہ کارروائی۔ عَدَاوَۃ جمع عَداوات: دشمنی، نفرت، سخت دشمنی اور نفرت۔ عُدَوَاء: رکاوٹ، مزاحمت، تکلیف، تکلیف دہ شخص، کام یا چیز، شکست، ہزیمت۔ ذو عُدَوَاء: ناہموار، کھردرا، مخالف ناموافق، نامساعد، پریشان کن، تکلیف دہ، عُدْوَان: دشمنی، نفرت، مخالفت، معاندانہ کارروائی، جارحیت۔ مَعْدًی: بچنے کا ذریعہ، نجات، چھٹکارا، احتراز، گریز، نکلنے کا راستہ، لامعدی عنہ: اٹل، ناگزیر، ہو کر رہنے والا۔ مَعْدِیَۃ جمع مَعَادٍ: گھاٹ، گھاٹ کی کشتی تعدیۃ: گھاٹ کی کشتی میں جانا یا لیجانا، پار جانے لیجانے کی کشتی یا کشتیاں۔ فعل کو متعدی بنانا۔ تَعَدٍّ: پار کرنا، حد سے بڑھنا، بڑھنا، ماوراء یا بلند تر ہونا، کار وغیرہ کا آگے نکلنا جمع تَعَدِّیَات: خلاف

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ورزی، قانون شکنی، ــــ علی: پر تجاوز، قانون کی خلاف ورزی، ہرجانے کی عدم ادائیگی کا جرم، حملہ، جارحیت إعْتَداء جمع إعتداءات علی: پر حملہ، پر قاتلانہ حملہ، پر مجرمانہ حملہ، کی شرمناک بے حرمتی، کے خلاف جارحیت۔ معاھدۃ (اتفاق) عدم الاعتداء: عدم جارحیت کا معاہدہ، عادٍ جمع عَوَادٍ: جارح، حملہ کرنے والا جمع۔ عُداۃ: دشمن عَوَادِیُ الوحوش: درندے، عَادِیَۃ جمع عَادِیَات و عَوَادٍ: ظلم، جرم، انتہائی ظلم، آفت، مصیبت، ادبار، بد قسمتی، بد نصیبی، بدبختی، شکست، رکاوٹ، جمع عادیات و عواد: نشیب و فراز، عَدَتْ علیھم عواد: تقدیر نے انہیں بہت چرکے لگائے، انکے برے دن آگئے۔ مُعادٍ: معاند، مخالف، دشمن، خطرناک، مخالفانہ، معاندانہ، مُعْدٍ: متعدی، چھوت والی وبائی، اَمْرَاضٌ مُعْدِیۃ: متعدی چھوت والی بیماریاں۔ مُتَعَدٍّ: فعل متعدی، جارح، حملہ آور۔ مُعْتَدٍ جمع: مُعْتَدُوْن: حملہ کرنیوالا، حملہ آور، جارح، جارحیت پسند۔

عذب: ا۔ عَذَبَ ـِ عَذَبًا: پیاس کی شدت سے کھانا کھانا چھوڑ دینا صفت عَذُوب و عَاذِب۔ ـ ہُ: کو روکنا۔ ــــ عنہ: سے باز رہنا۔ عَذَّبَ ہُ: کو عذاب دینا۔ تکلیف دینا، ایذا دینا۔ ــــ ہُ عن الشیئ: کو سے منع کرنا، روکنا۔ ــ الشیءَ: کو روک لینا۔ اَعْذَبَ عنہ: سے باز رہنا۔ ــــ ہ عن الامر: کو سے منع کرنا۔ کہتے ہیں۔ أَعْذِب نفسك عن كذا: اپنے آپ کو اس سے روکو۔ استعذب عن كذا: سے باز رہنا۔ العَاذِب من الدوابّ جمع عُذُوب: وہ جانور جو کھڑا ہو اور کھاتا پیتا نہ ہو۔ العَذَاب جمع أَعْذِبَة: ہر وہ شے جو انسان کیلئے باعث مشقت ہو اور اسے اپنی مراد سے باز رکھے۔ العَذُوب من الدوابّ: پیاس کی شدت کی وجہ سے چارہ ترک کردینے والا جانور۔

۲۔ عَذَبَ ـِ عَذَبًا و عَذَّبَ السوطَ: کوڑے میں پھندا لگانا۔ إعْتَذَبَ: عمامے کے دو شملے لٹکانا۔ العَذَب واحد عَذَبَة: کوڑے کے تسمے، ترازو کی زبان، درخت کی شاخیں، ہر شے کے اطراف، عمامہ کا شملہ۔

۳۔ عَذِبَ ــــ عَذَبًا الماءُ: پانی کا کائی دار ہونا صفت عَذِب۔ أَعْذَبَ الماءَ: پانی سے کائی اور تنکے نکال پھینکنا۔ العَذَب (مص) واحد عَذَبَة: تنکا۔ العَذَبَة جمع عَذَبات: تنکا۔ العَذْبَة و العَذِبَة: کائی۔

۴۔ عَذُبَ ـُ عُذُوبَةً و إعْذَوْذَبَ الشرابُ: میٹھا اور خوشگوار ہونا۔ أَعْذَبَ: میٹھے پانی پر پہنچنا۔ ــ القومُ: قوم کا میٹھے پانی والا ہونا۔ ــــ اللّٰہُ الماءَ: اللہ تعالیٰ کا پانی کو میٹھا کرنا۔ اِسْتَعْذَبَ: میٹھا اور خوشگوار پانی طلب کرنا یا پینا۔ کہتے ہیں۔ خَرَجَ یستعذب الماءَ: میٹھا پانی لانے کیلئے جانا۔ ــ الشیءَ: کو میٹھا اور خوشگوار پانا۔ العَذْبُ: خوشگوار پانی اور کھانا۔ ماءٌ عَذْبٌ: میٹھا پانی۔

۵۔ العاذِب جمع عُذُوب و العَذُوب: وہ شخص جس کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔

○ میاہ عَذْبۃ: تازہ پانی۔ عَذْبُ الحدیث: دلچسپ، ملنسار یا ساتھی بننے کے لائق، خوبرو، عَذَاب جمع عَذَابات و أَعْذِبَة: تکلیف، ایذاء، اذیت، درد وکرب، سزا، تادیب، سرزنش، گوشمالی، عُذُوبہ: مٹھاس۔ اَعْذَب: زیادہ میٹھا، زیادہ خوشگوار، زیادہ عمدہ

عذج: عَذَجَ ـِ عَذْجًا الماءَ: پانی پینا۔ ــــ فلانًا: کو گالی دینا۔ المِعْذَج: عزت مند، بد اخلاق، بہت ملامت کرنے والا۔

عذر: ا۔ عَذَرَ ـِ عُذْرًا و عُذُرًا و عُذْرَى و مَعْذُرَةً و مَعْذِرَةً ہُ علی او فی ماصنع: کو پر معاف کرنا، کو بری الذمہ قرار دینا، کا عذر قبول کرنا، عَذَّرَ: عذر ثابت نہ ہونا۔ ــ ہُ: سے عذر کرنے میں مبالغہ کرنا۔ عَاذَرَ مُعَاذَرَةً: کا عذر ثابت نہ ہونا۔ اَعْذَرَہ فی او علی ماصنع: کو پر معاف کرنا، کو الزام سے بری کرنا۔ ــ الرجُلُ: عذر ظاہر کرنا۔ ــــ من نفسہ: ایسا کام کرنا جس پر اس کو معاف کیا جاسکے ضرب المثل ہے: أَعْذَرَ من أَنْذَرَ: جس نے تمہیں کسی ایسی مصیبت سے خبردار کیا ہو جو تم پر آنے والی ہو تو وہ آپ کے نزدیک معذور ہوگیا، انصاف کرنا۔ تَعَذَّرَ الرجُلُ: خود کو بے گناہ ثابت کرنا۔ ــــ فلانٌ من الذَّنْب: کی ذمہ داری سے انکار کرنا۔ إعْتَذَرَ عن و من فعلہ: سے معذوری ظاہر کرنا۔ عن فلان: کا عذر قبول کرنے کی درخواست کرنا۔ ــــ الرجُلُ: معذور ہونا، قابل معافی ہونا۔ ــ الیہ: کو عذر پیش کرنا۔ إسْتَعْذَرَ الیہ: کو عذر پیش کرنا۔ العُذْر جمع أعْذار: عذر، معذرت، اعتذار، العِذْرَة ج عِذَر، العُذْرَى: عذر، معذرت، اعتذار۔ العَذِیْر جمع عُذُر م عَذِیرَة: معذرت کرنے والا، عذر خواہ۔ المَعْذَرَة و المَعْذُرَة و المَعْذِرَة جمع مَعَاذِر و المِعْذَار جمع مَعَاذِیر: عذر، معذرت، اعتذار۔

۲۔ عَذَرَ ـِ عَذْرًا و عُذُرًا الفرسَ بالعِذار: گھوڑے کے پوری لگانا، گھوڑے کو لگام دینا۔ عَذَّرَ الغلامُ: لڑکے کے رخسارہ پر سبزہ اگنا، لڑکے کی مسیں بھیگنا۔ اَعْذَر الفرسَ: گھوڑے کے پوری کو لگام دینا۔ العاذُور جمع عَوَاذِیر: علامت، العِذار جمع عُذُر: پوزی، رخسارے پر کان کے مقابل بال رخسار، حیا، کہتے ہیں۔ خَلَعَ عِذَارَہُ وھو خلیع العِذار: اس نے شرم وحیا تار پھینکی ہے۔ لوی عذارہ عنہ: اس نے اس کی نافرمانی کی۔ ــــ من النصل: تیر کے پھل کی دونوں طرف کی دھار۔ العُذْرَة: دوڑنے والی گھوڑے کو نظر لگنے سے بچانے کے لئے اس کی پیشانی پر باندھا جانے والا نشان۔ بالوں کا گچھا، گھوڑے کی گردن کے بال، پیشانی۔

۳۔ عَذَرَ ـُ عَذْرًا و عُذْرًا الصبیَّ العاذورُ: بچے کو گلے کی تکلیف ہونا۔ عُذِرَ الصبیُّ: بچہ کو گلے کا درد ہونا۔ اَعْذَرَہُ فی ظھرہ: کو مار کر بدھی ڈال دینا، کہتے ہیں۔ ضَرَبَہُ حتّی اَعْذَرَ مَتْنَہُ: اس نے اُسے اتنا مارا کہ پیٹھ پر زخم کے نشان ڈال دیئے۔ ــ بفلان: پر زخم کا نشان چھوڑنا، کہتے ہیں۔ ضُرِبَ فلانٌ فأُعْذِرَ: کو مارتے مارتے ہلاکت کے قریب پہنچا دیا گیا۔ العَاذِر (فا): زخم کا نشان، العَاذُور جمع عَوَاذِیر والعُذْرَة جمع عُذَر (طب): حلق کی بیماری۔ العَذِیرة: زخم کا نشان۔

۴۔ عَذَرَ ـِ عَذْرًا و أَعْذَرَ الغُلامَ: لڑکے کی ختنہ کرنا۔ العِذَار: ختنہ یا تعمیر کا کھانا۔ العُذْرَة جمع عُذَر: ختنہ کی کھال، الاعْذَار (مص): خوشی کے موقع پر پکایا جانے والا کھانا۔ العَذِیرَة: کسی نئی چیز سے استفادہ پر دیا جانے والا کھانا۔

۵۔ عَذَرَ ـِ عَذْرًا و عُذْرًا: کے گناہوں کا زیادہ ہونا۔ اَعْذَرَ: کے گناہوں کا زیادہ ہونا۔

۶۔ عَذَّرَ فی الامر: کوشش کے بعد کسی معاملہ میں کوتاہی کرنا۔ أَعْذَرَ فی الامر: کسی معاملہ میں کوتاہی کرنا اور کوشش نہ کرنے کے باوجود کوشش والا سمجھنا۔ تَعَذَّر عن الامر: سے پیچھے ہٹنا۔ ــــ علیہ الامرُ: پر دشوار ہونا، باز رہنا۔ العُذْرَة: بکارت، خواہش، العُذْرِی: پاک دامن۔ العَذْرَاء جمع العَذَارَی و العَذَارِی و العَذْرَاوَات: باکرہ۔ در ناسفتہ، حضرت مریمؑ کا لقب۔

۷۔ عَذَّرَ الدارَ: گھر کے نشانات مٹانا۔ تَعَذَّرَ و إعْتَذَرَ الرسمُ: نشان کا مٹ جانا۔

۸۔ أَعْذَرَتِ الدارُ: گھر کا بہت پلید ہونا۔ تَعَذَّر الشیءُ: پلیدگی سے لتھڑ جانا۔

العَاذِرَة: پاخانہ، العَذِرَة جمع عَذِرات: پاخانہ، کھانے کا ردی حصہ مکان کا سامنے کا حصہ۔

۹۔ تعَذَّرَ: فرار ہوجانا، بھاگ جانا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

١٠۔ العدْ جمع أعْدَار غلبہ، کامیابی، جنگ کے موقع پر کہا جاتا ہے (لِمَن العُذْر) کس کے لئے غلبہ ہے؟ (کون غالب ہوا) کہتے ہیں۔ ھو ابو عُذرِ ھذا الکلام: وہ اس کلام میں پہلا بولنے والا ہے۔ العَذْرۃ جمع عُذر ایک ستارہ کا نام ہے جس کے نکلنے سے گرمی بڑھ جاتی ہے۔ العذیر جمع عُذُر و عَذِیرۃ۔ مددگار۔

◯ عدر ۔ عُذرًا و مَعْذِرَۃً کو معاف کرنا، کو جرم سے بری کرنا ۔ ہ فی / عن کو اس کا کوئی فعل معاف کر دینا۔ لم یعذرنی وہ مجھے کوئی معذرتیں پیش نہیں کرنے دیتا تھا، وہ کسی سوال کا "نہ" میں جواب قبول نہ کرتا تھا۔ واصرار کرتا رہا۔ عدر ۔ عذر ہ کی ختنہ کرنا۔ أعذر بمعنی عذر نیز عذر رکھنا۔ أعْذَرَ مَنْ انذر جو وارننگ دے وہ قابل معافی ہے۔ تعذّر علی پر مشکل ہونا، ناممکن ہونا، ناقابل عمل ہونا، اعتذر لـ ... من ... سے کیلئے معذوری ظاہر کرنا، ... سے کیلئے معذرت کرنا، عذر خواہی کرنا ۔ بـ کچھ بطور عذر پیش کرنا۔ عن ... من کیلئے، عذر پیش کرنا، (یا کے دفاع میں)۔ إسْتَعذر معذرت طلب کرنا۔ معذرت پیش کرنا۔ عُذر جمع اعذار عذر معذرت اعتذار ابو عذر: کا ذمہ دار، کیلئے جواب دہ۔ ھو ابو عُذر ھذا التطور وہ اس ترقی کا موجد یا مخترع ہے۔ عُذرۃ پاکدامنی، عصمت، عفت، پاکیزگی۔ ایک عرب قبیلہ کا نام عذری عذرہ قبیلہ سے متعلق الھوی العُذری پاک محبت (Platonic love)۔ عِذار جمع عُذر رخسار، رؤئیں، رخساروں پر سبزہ کا آغاز۔ گھوڑے کے گالوں پر کی پوری خلع عذارہ پر پابندی اتار پھینکنا، شرم و حیا کے سب جھوٹے وعدے ترک کر دینا۔ خالع العذار جسے کوئی روک ٹوک نہ ہو، بے قابو، آوارہ اوباش، بلا پابندی۔ فتاۃ عَذْراء کنواری لڑکی، دوشیزہ، ناکتخدا عورت۔ تعذّر دشواری، مشکل، ناممکن بات، امر محال، ناقابل عمل ہونا، ناممکن ہونا، متعذر مشکل، ناممکن، ناقابل عمل۔

عذف ا۔ عَذَفَ ـِ عَذْفًا من الطعام: کھانے میں سے کچھ کو چکھنا۔ تَعَذَّفَ الطعامَ کھانا کھانا۔ کہتے ہیں۔ ما ذقت عَذْفًا و لا عُذُوفًا و لا عُذافًا میں نے کوئی چیز نہیں چکھی۔

٢۔ العُذافِرۃ جمع عَذافِر مضبوط اونٹ۔ العذوفر مضبوط اونٹ۔

عذق ا۔ عَذَقَ ـِ عَذْقًا فلانًا بشرٍّ پر تہمت لگانا۔ ہ الی کذا کو سے منسوب کرنا۔ و أعذق الشاۃ بکری کے رنگ کے خلاف کسی اور رنگ کی اون سے نشان لگانا۔ اعتذق ہ بکذا کو کسی چیز کے ساتھ مخصوص کرنا۔ العَذَقۃ و العِذقۃ بکری کے رنگ کے خلاف رنگ کی اون وغیرہ کا نشان جو اس پر لگایا جاتا ہے۔

٢۔ عذق ـِ عَذْقًا و عَذَّقَ النخلۃ: کھجور کے درخت کی شاخ کاٹنا۔ إعتذق پگڑی کے دو شملے پیچھے کی طرف لٹکانا۔ العِذق شاخوں والی ٹہنی۔ عزت کہتے ہیں فی بنی فلان عِذْقٌ کھلٌ: بنی فلاں میں انتہائی عزت ہے۔ جمع عُذُوق و أعذاق (ن) کھجور کا درخت جو کھجوروں سے لدا ہوا ہو۔ کھجور کا خوشہ۔ انگور کا گچھا۔ العاذِق (فا) جمع عاذقون و عُذّاق کھجور کے درخت کی حفاظت اور خدمت کرنے والا۔

٣۔ العَذِق: ہوشیار۔ چرب زبان۔ طِیبٌ عَذِق تیز خوشبو۔

◯ عذق جمع أعذاق: (کھجوروں، انگوروں کا) گچھا، خوشہ)۔

عذل ا۔ عَذَلَ ـُ عَذْلًا و عَذَّلَ ہ: کو ملامت کرنا، صفت عاذِل جمع عُذَّل و عُذّال و عَذَلۃ و عاذلون و عاذلۃ جمع عَوَاذِل و عاذلات۔ تعذَّل و إعتذل اپنے آپ کو ملامت کرنا، ملامت زدہ ہونا۔ تعاذل القوم ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ العَذْل و العَذَل و التعذال ملامت۔ العُذَلۃ و العَذّال و العَذُول: بہت ملامت کرنے والا۔ العَذّالۃ: عَذّال کا مونث، بہت ملامت کرنے والا۔ المُعَذَّل (مفع) فیاضی کی بنا پر ملامت شدہ۔

٢۔ إعتذل الیوم: دن کا سخت گرم ہونا۔ ایامٌ عُذَّلٌ و مُعْتَذِلات سخت گرم دن۔

٣۔ إعتذل الرجلُ علی الشیء کا پختہ ارادہ کرنا۔

٤۔ العَذّالۃ: سرین

٥۔ عَذْلَجَ السِّقاءَ: مشکیزہ بھرنا۔ الولدَ وغیرہٗ لڑکے وغیرہ کو اچھی غذا دینا۔ عیشٌ عِذْلاج: خوشگوار زندگی۔ العُذْلُوج: اچھی غذا سے پرورش پانے والا بچہ۔ المُعَذْلَج م مُعَذْلَجۃ پر گوشت خوبصورت جسم والا۔

◯ عَذَلَ ـُ عَذْلًا ہٗ کی عیب جوئی کرنا، کو الزام دینا، کو قصوروار ٹھہرانا، کو ملامت کرنا، پر الزام لگانا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا، کی سرزنش کرنا، کو ڈانٹنا، کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، پر ملامت کرنا۔ عَذَل بمعنی عَذْل۔

عذم: عَذَمَ ـِ عَذْمًا الفرسُ گھوڑے کا کاٹ کھانا۔ عَذِمَ ـِ عَذْمًا ہٗ کو گالی دینا۔ العَذُوم جمع عُذُم و العَذّام بہت کاٹ کھانے والا۔

٢۔ عَذَمَ ـِ عَذْمًا الرجلَ اپنا دفاع کرنا۔ أعْذَمَہٗ عن نفسہ: کو اپنے آپ سے روک دینا۔

٣۔ عَذَمَ ـِ عَذْمًا ہٗ کو ملامت کرنا۔ العَذُوم جمع عُذُم و العَذّام بہت ملامت کرنے والا۔ العَذِیمۃ جمع عَذائِم ملامت۔

٤۔ العَذِیمۃ جمع عَذائِم اس کھجور کا درخت جس میں گٹھلی نہ ہو۔

عذا عذا یعذو عَذْوًا و عَذِیَ یعذی عَذًی و عَذُوَ یعذو عَذاوۃً المکانُ جگہ کا اچھی ہوا والا ہونا۔ پانی اور وبائی امراض سے دور ہونا۔ إستعذی المکانَ جگہ کو اچھی ہوا والا سمجھنا۔ ارضٌ عاذِیۃٌ و عَذِیَۃٌ و عَذِیّۃٌ و عَذاۃٌ: عمدہ آب و ہوا والی زمین۔ العِذْیُ جمع أعذاء: بارانی کھیت، بارانی فصل۔

◯ عَذا ـُ و عَذِیَ ـَ عذوا و عَذًی (ملک، شہر وغیرہ کا اپنی آب و ہوا وغیرہ کی بنا پر) صحت بخش ہونا۔

عر ا۔ عَرَّ ـُ عَرًّا و عُرَّ الجملُ: اونٹ کا خارش زدہ ہونا صفت عَرُّ و عُرٌّ و عارٌّ و مَعْرُور۔ ـُ عَرَّاہٗ کو غمگین کرنا ۔ ہ بشرٍّ کو برائی سے ملوث کرنا۔ عارَّ مُعارَّۃً و عِرارًا ہٗ سے لڑنا، کو ایذا دینا۔ إستعرَّھُمُ الجرَبُ لوگوں میں کھجلی کا پھیل جانا، خارش کا پھیل جانا۔ العارُور و العارُورۃ گندہ اور منحوس آدمی۔ قوم پر ذلت و رسوائی لانے والا۔ العَرّ کھجلی والا، کھجلی، عیب، برائی۔ العُرّ کھجلی۔ العَرّۃ: اسم مرۃ، بری عادت، عیب، جنگ کی شدت۔ العُرّۃ کھجلی، ناگوار بات کا پیش آنا، گناہ، جرم۔ العُرار: گناہ، سنگین جرم۔ العِرار: قصاص، خون کا بدلہ۔ العَرارۃ: بدخلقی، سختی۔ العَرَر و العُرُور کھجلی، خارش، الأعرّ م عَرّاء جمع عُرٌّ خارش زدہ (شخص یا اونٹ)۔ المَعَرّۃ: گناہ، ایذا، بدی، عیب، بری بات۔ (فلک) ستارہ (کہکشاں کے علاوہ) سختی، گالی، جرمانہ۔ مَعَرّۃ الجیش وہ لشکر جو نادانی سے قوم کی کھیتی کھالے۔

٢۔ عَرَّ ـُ عَرًّا ہٗ کے پاس سائل بن کر آنا۔ اعترَّ إعترارًا ہٗ و إعترَّ بہ: بغیر سوال کے کسی کے پاس بخشش کیلئے آنا۔ المُعترّ بغیر سوال کئے بخشش کے درپے ہونے والا۔ فقیر۔

٣۔ عَرَّ ـُ عَرًّا الارضَ زمین میں کھاد ڈالنا۔ عَرَّرَ الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ اعَرَّتِ الدارُ گھر کا گندہ ہونا۔ العُرّ پرندہ کی بیٹ۔ العُرّۃ گوبر، لید، مینگنی، پرندے کی بیٹ۔

٤۔ عَرَّ ـِ عِرارًا و عارَّ مُعارَّۃً و عِرارًا الظلیم: شتر مرغ کا چیخنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۵۔ تعارّ نیند میں بولتے ہوئے بیدار ہونا۔ العُرّۃ جنون کہتے ہیں۔ بہ عُرّۃٌ یعنی اس کو جنون ہے۔

۶۔ العَارُور والعَارُورَۃ بے کوہان کا اونٹ العَرّ وہ بچہ جس کا دودھ جلد چھڑا دیا گیا ہو۔ العَرَّۃ عَرّ کا مونث۔ العُرّ لڑکا۔ العُرّۃ لڑکی، کوہان کی چربی۔ العَرّاء لڑکی۔ العَرار (واحد عرارہ) ایک پھول جسے گاؤ چشم کہتے ہیں۔ جنگلی نرگس۔ العرارۃ (ح) ٹڈی۔ بلندی۔ سردار کا اختیار۔ العریر اجنبی۔ المَعَرَّۃ غصہ سے چہرے کا رنگ بدل جانا۔ ایک شہر کا نام۔

۷۔ عرعر القارورۃ شیشی بند کرنا۔ شیشی کو کارک لگانا، شیشی کے کارک کو علیحدہ کرنا۔ نکالنا۔ العین آنکھ پھوڑ دینا۔ العرعرۃ جمع عرار شیشی کا کارک۔ العُرعُرۃ جمع عراعر شیشی کا کارک۔ عُرعُرۃ الجبل پہاڑ کی چوٹی۔

۸۔ العُرعُر بدخلقی، کہتے ہیں رکب عرعرہ وہ بدخلق ہوگیا۔ العَرعَر (ن) ایک درخت سرو کے مانند۔ اس کا پھل اگلی مشروبات کو خوشبودار بنانے کے لئے اور لکڑی جلدی امراض کی دواء بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ العُراعِر جمع عَراعِر شریف، سردار۔ من الابل موٹا اونٹ۔

ⓒ عَرّ ہ کیلئے رسوائی ہونا، فضیحت ہونا، موجب رسوائی، شرمناک بات ہونا، کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، کیلئے موجب رسوائی ہونا۔ عُرّۃ کھجلی، خارش، خارشت، گوبر، شرمناک، موجب رسوائی چیز۔ عُرَر کھجلی خارش، خارشت۔ مَعَرّۃ رسوائی، شرمندگی، بے عزتی، فضیحت، ذلت، داغ، دھبا، بدنامی، کلنک کا ٹیکہ، دامن پرداغ۔ مُعتَرّ سخت غمزدہ، سخت بری حالت میں، بدنصیب، بدبخت، مصیبت زدہ، خراب تکلیف دہ، بدذات، بے اصول شخص، دھوکے باز، ٹھگ، شریر بچہ۔

عرب ۱۔ عَرِبَ یَعرَبُ الطعام کھانا کھانا۔

۲۔ عَرُبَ عُرُوبَۃً و عُرُوبِیَّۃً و عَرابۃً و عَرَبًا و عُرُوبًا فصیح عربی بولنا، فصیح عربی ہونا۔ عَرِبَ عَرَبًا الرجل لکنت کے بعد فصیح ہونا۔ عَرَّبَ المنطق کو اعرابی غلطی سے پاک کرنا۔ الکتاب ونحوہ کتاب وغیرہ کو اجنبی زبان سے عربی زبان میں منتقل کرنا، کا عربی میں ترجمہ کرنا۔ عنہ لسانہ فصیح ہونا، مراد کو ظاہر کرنا۔ عن صاحبہ اپنے ساتھی کی طرف سے بولنا اور اس کی براءت کرنا، کے لئے جواز پیش کرنا۔ بحجتہ دلیل کو اچھی طرح بیان کرنا۔ الرجل عربی گھوڑا لینا۔ الاسم الاعجمی عجمی نام کو عربی بنانا۔ أعرب کلامہ بات فصاحت سے کرنا، اور غلطی نہ کرنا۔ الشئ کو ظاہر کرنا۔ عن حاجتہ کو صاف بیان کرنا۔ الکلام بیان کرنا۔ بحجتہ عمدہ دلیل بیان کرنا۔ الکلمۃ پر اعراب لگانا۔ الفرس العربی ہنہنانے سے عربی گھوڑے کو غیر عربی گھوڑے سے ممتاز کرنا۔ الاسم الاعجمی عجمی نام کو عربی بنانا۔ الرجل عربی گھوڑوں یا اونٹوں کا مالک ہونا، اچھا عربی اسلوب استعمال کرنا۔ تعرّب عربی اخلاق اختیار کرنا۔ اہل عرب کی مشابہت کرنا۔ دیہات میں قیام کرنا۔ اعرابی بننا۔ استعرب عربوں میں داخل ہونا۔ العُرب و العَرَب جمع اَعراب و عُرُوب بحر احمر کے مشرق میں جزیرہ نما عرب کی ایک پود۔ غیر عجمی، غیر عجمی سے یہاں مراد ہر وہ شخص ہے جو عرب نہیں، جیسے اہل فارس، ترک، یوروپین و غیرھم العَرَبُ العُرباء والعاربۃ والعَرِبۃ والعَرَبۃ خالص عربی لوگ، لفظ اس مقام پر بتاویل طائفہ مونث ہے۔ العَرَبُ المتعرّبۃ و المستعربۃ وہ غیر ملکی جو عرب میں آباد ہوئے۔ رجلٌ عَرِبٌ فصیح عربی زبان والا مرد۔ خیلٌ او ابلٌ عِرابٌ و اَعرُبٌ اصیل عربی گھوڑے یا اونٹ۔ العُربان: عرب۔ رجلٌ عَرِبانٌ فصیح زبان والا مرد۔ رجلٌ عَرَبانیٌّ اللسان فصیح عربی زبان والا مرد۔ العَرَبیّ خالص عرب کا باشندہ اگرچہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو۔ العَرَبیَّۃ عَرَبیّ کا مونث عربی زبان جسے عرب بولتے ہیں العُرُوبیّۃ اصلی عربوں کی حالت اور خصوصیات۔ الأعراب بدو عرب دیہات کے رہنے والے واحد اَعرابیّ۔ الأعرابیّ بدوی، ریگستان عرب کے خانہ بدوش۔ الأعرابیّۃ اعرابی کی حالت جیسے خانہ بدوشی، بدویت کہتے ہیں۔ ھو اعربھم احسابًا وہ حسب کے اعتبار سے ان سب میں خالص ترین ہے۔ واعربھم ألسنۃً اور زبان کے لحاظ سے خالص ترین۔ الاسم المُعَرَّب وہ نام جسے عربوں نے عجمیوں سے نکرہ لیا ہو جیسے ابریسم، عربی بنایا ہوا نام۔

۳۔ عَرِبَ عَرَبًا بگڑے ہوئے معدے والا ہونا۔ ت المعدۃ معدہ خراب ہونا۔ الجرح زخم کا سوجنا اور اس میں پیپ پڑجانا۔ معدۃٌ عَرِبَۃ خراب معدہ۔

۴۔ عَرِبَ عَرَبًا البئر کنویں میں بہت پانی ہونا۔ العَرَبُ والعَرُب من الماء بہت اور صاف پانی۔ بئرٌ عَرِبَۃ بہت پانی والا کنواں۔

۵۔ عَرِبَ علیہ ... فعلہ کو اس کے فعل پر ... غیر معقولیت بتانا۔ قولہ کا قول اس پر لوٹانا اور اسے غلط ثابت کرنا۔ الرجلُ قبیح بات کہنا۔ اَعرَبَ الرجل فحش بات کہنا۔ استعرب قبیح بات کہنا۔ العِرابۃ والعَرابۃ فحش گوئی۔

۶۔ اَعرَبَ الفرس گھوڑے کو دوڑانا۔ العَرِبۃ جمع عَرِب و عَرِبات تیز بہنے والا دریا۔ العَرِبات وہ کشتیاں جو بغداد میں بندھی رہتی تھیں۔ (جن سے پل کا کام لیا جاتا تھا) آج کل بگھی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

۷۔ عَرّبَ و اَعرَبَ المشتری خریدار کا بیعانہ دینا۔

۸۔ العَرُوبۃ جمع عَرُب و عَرُوبات نفس العَرّاب م عَرّابۃ عند النصاری وہ شخص جسے بپتسمہ دیئے ہوئے شخص کا باپ بنایا جاتا ہے۔ عَرّابۃ وہ عورت جو ماں بنتی ہے۔ العَرُوب و العَرِبۃ من النساء بہت ہنسانے والی عورت۔ شوہر کی نافرمانی عورت۔ عَرُوبۃ و یوم العَرُوبۃ جمعہ کا دن، کہتے ہیں۔ ما بالدار مُعرِبٌ او عَرِیبٌ گھر میں کوئی نہیں ہے۔

۹۔ عَربَدَ عَربَدَۃً بدخلق ہونا صفت عِربِید و مُعَربِد العِربِد والعِربَدّ سخت چیز (کہتے ہیں۔ غضب غضبًا عربدًا: وہ سخت غضبناک ہوا)۔ (ح) نر سانپ۔

۱۰۔ عَربَنَ ہ کو بیعانہ دینا۔ العُربان والعُربُون والعَرَبُون جمع عَرابین بیعانہ عام لوگ رَعْبُون کہتے ہیں۔

ⓒ عَرَّبَ ہ ہ کو عربی بنانا۔ ہ کو عربی میں ترجمہ کرنا۔ عن کو ظاہر کرنا، کا اظہار کرنا، وضاحت سے بیان کرنا، کا اعلان کرنا۔ سائی دینا، بیعانہ دینا۔ زر پیشگی دینا، اعرب ہ ہ کو عربی بنانا۔ ہ کو عربی شکل دینا۔ عن کو واضح کرنا۔ وضاحت سے بیان کرنا، کا اعلان کرنا۔ کو صاف اور غلطی کے بغیر ظاہر کرنا۔ کا اظہار کرنا، کو زبان سے نکالنا، بولنا، گننا، کا باضابطہ اعلان کرنا۔ تعرّب اپنے آپ کو عربوں میں سمو لینا، عرب بن جانا، عربوں کے رسم و رواج اختیار کرنا۔ استعرب بمعنی تعرّب۔ عرب (اسم جنس) جمع عُرُوب و اَعرُب و عُربان و اعراب عرب، خالص عرب، ریگستان کے عرب بدو۔ عربی عَرَبی، عربی، خالص عربی ایک عرب۔ العربیۃ قدیم عربوں کی زبان۔ کلاسیکل یا ادبی (کتابی) عربی۔ عَرَبۃ تیز رو دریا۔ جمع عربات گاڑی گھوڑا گاڑی۔ ویگن (Wogon) چھکڑا، بیل گاڑی، ریل گاڑی کا ڈبہ کوچ (Coach) عَرَبۃ الاجرۃ: بگھی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ٹیکسی، Cab کرائے کی گاڑی (Hack hockney)عـربة الاکل: ریل گاڑی میں کھانے کا ڈبہ(Diner, dining car)عربة رَش: پانی کی گاڑی،پانی چھڑکنے والی گاڑی۔عـربة الرکوب: ٹیکسی،کرائے کی گاڑی۔عـربة الشَحن: ویگن، لوری Lorry، بار برداری کی گاڑی، مال گاڑی۔ عـربة مطُعَمْ: ریل گاڑی میں کھانے کا ڈبہ۔عربة الاطـفـال: بچہ گاڑی۔عـربة الـنقل: ویگن،لوری (lorry)وین،مال گاڑی۔عربة النوم: سونے والا ڈبہ(Sleeper, Sleeping car)عـربةُ یـد: ہاتھ گاڑی۔عَـرَبـة: گاڑی،کوچ۔عَـرَبـجـی جمع عـربـجـیـه: گاڑی بان،کوچوان کوچبان،بس ران، بگھی والا۔Coachman, Cabman۔ عـربـخانة: کارکاشیڈ،کوچ گھر۔عَرَّاب: دینی باپ (God father)اور(Sponsor)۔عَرَّابَة: دینی ماں(God mother)۔أعْـرَابِی جمع أعراب ریگستان کا ایک عرب۔بدوعُـروْبَة. عربیت،عربی حالت، عربی فکر، تصور، عرب ذہنیت، فطرت، خصوصیت وکردار۔تـعـریـب: عربی بنانا،عربی میں ترجمہ، عربی میں مستعار کے الفاظ کی شمولیت۔ مُـعرِّب: عربی میں ترجمہ کرنے والا۔مُـعَرَّب: عربی بنایاہوا،عربی میں ترجمہ کیاہوا۔اِعـــراب: اظہار، مظاہرہ،اعلان،فیصلہ۔اندازگفتگو۔ عن: کا اظہار، اعراب(گرام کی اصلاح)عَرْبَدَ: جھگڑالوہونا،کٹ حجتی ہونا۔جھگڑا کرنا،شور مچانا، اکھڑ ہونا، تند ہونا، ہنگامہ خیز ہونا،شوروغل کرنا یا مچانا، عَـرْبَدَة: جھگڑالو پن،کٹ حجتی،شور،شوروغل،غوغا،غل غبارہ، ہنگامہ، گڑبڑ،اودھم،دھماچوکڑی،بلوہ،فساد۔عِـــرْبِیْـــد ومُعَرْبِد: جھگڑالو،کٹ حجتی،شورمچانے والا،اکھڑ،تند، ہنگامہ خیز،شوروغل کرنے والا۔اودھم مچانے والا۔ عَرْبَنَ هُ: کو بیعانہ دینا،سائی دینا،زرپیشگی: ینا،کومال کاتحفہ دینا،عُربُون و عَرَبون جمع عَرابین: سال نوکا تحفہ،سائی،بیعانہ،زرپیشگی،ضمانت،گروی،گرو۔

عـرت: عَـرَتَ ـُـ عَرْتًا الرمحُ: نیزہ سخت ہونا۔ــــ البـرقُ وغیـرُهُ: بجلی وغیرہ کا چمکنا۔بـرقٌ اور رمحٌ عَرَّاتٌ: بہت حرکت کرنے والا نیزہ یا بجلی۔العَرْتَبَة: ناک یاناک کا نرم حصہ یااس کے نتھنے کا کنارہ۔

۞ عَرْبَسَ هُ: کو پریشان کرنا،برہم کرنا۔

عرج: ا۔عَـرَجَ ـِـ عُـرُوجًـا ومَعْرجًا: لنگڑانا صفت اَعْرَج جمع عُـرْج وعُـرْجـان م عَرْجاء عَرِجَ ـَـ عَـرَجًا: لنگڑاہونا۔ــــ وعَـرُجَ ـُـ عَرَجَّات الشمسُ: آفتاب کا مغرب کی طرف جھکنا۔عَرَّجَ: ایک طرف سے دوسری طرف جھکنا۔ــــ الرجُلُ: آفتاب کے غروب ہونے کے وقت داخل ہونا۔ــــ عن الشیٔ: کوچھوڑ دینا،ترک کردینا۔ــ الثوبَ: کپڑے کوپیچیدہ دھاری دار بنانا۔ــ البناء او النهرَ: عمارت یادریا کو جھکاؤ کے ساتھ بنانا۔أعْرَجَ: آفتاب کے غروب ہونے کے وقت داخل ہونا۔ــ ه اللّٰهُ: اللہ کاکسی کولنگڑا کرنا۔تَعَرَّج: جھکنا۔تعَارَجَ: لنگڑا بننا۔ إنْعَرَجَ الشیٔ: مڑنا۔ٹیڑھا ہونا۔ــ الطریقُ: راستہ کا جھکنا۔ــــ عن الشیٔ: کوترک کردینا،سے تجاوز کرنا۔ــــ القومُ عن الطریق: لوگوں کاراستہ سے بھٹک جانا۔العَرَج والعَرَجان: لنگڑاپن،لنگڑے کی چال۔لنگڑاہٹ۔العرجاء اعرج کامونث۔لنگڑی (ح) بـجـوّ امرٌ عَرِیْجٌ: غیر مستحکم کام۔الإنْعِرَاج (ف): (ف) روشنی کی شعاع(یا 'س' شعاع) کا سیدھا نہ رہنا۔اس کا مشاہدہ،مثال کے طور پر چھوٹے سے سراخ میں شعاع کے گزرنے پر ہوتا ہے۔ المُنْعَرَج من الوادی: وادی کا موڑ۔

۲۔عَـرَجَ ـِـ عُرُجًـا ومَـعْرَجًا فی السلّم: سیڑھی پر چڑھنا۔ــعلی الشیٔ وفیه: پر چڑھنا۔عُرِجَ به: کاچڑھایاجانا۔الـمِـعْرَج و المَعْرَج والمِعْراج جمع مَعَارِج و مَعَاریج: سیڑھی، چڑھنے کی جگہ۔

۳۔عَرَّجَ: ٹھہرنا۔رکنا۔کہتے ہیں۔فلانٌ لایُعَرَّجُ علی قوله: اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔تعَرَّجَ علی المـکـان: کسی جگہ پر سواری کے جانور کو باندھنا اور اقامت کرنا۔الـعَـرْجَة والعُرْجَة: جس پر توقف کیا جائے۔العُرَیْجاء: دوپہر۔

۴۔عَـرْجَـنَ الثـوبَ: کپڑے پر شاخوں کی شکلیں بنانا۔ العُرجُون: اسے الـعُرْجُد اور الـعُرْجُدْ بھی کہا جاتا ہے جمع عَـرَاجِین: کھجور کے گچھے کی جڑ جو ٹیڑھی ہوتی ہے اور گچھے کے کاٹنے کے بعد درخت پر خشک ہوکر باقی رہتی ہے۔

۞ عَـرَجَ ــُ عُرُوجًا: چڑھنا،عَـرِجَ ــَ عَرَجًا: لنگڑا ہونا،لنگڑا کر چلنا،عَرَّج علی: کی طرف مڑنا۔(کسی جگہ)رکنا،ٹھہرنا۔ــ عن: کو بند کرنا سے منحرف ہونا۔ ــ ه: کولنگڑا کرنا،مفلوج کرنا،ــ ه: کوٹیڑھا میڑھا کرنا۔أعْـــرَجَ هُ: کولنگڑا کرنا،لنگڑالولا کرنا،مفلوج کرنا۔تـعَرّج: پیچ وخم کھاتے ہوئے چلنا یا ہونا،ٹیڑھا میڑھا چلنا یا ہونا، ٹیڑھا میڑا راستہ اختیار کرنا۔ اِنْـعَرَجَ: جھکنا،ٹیڑھا،پیچ دار،یاموڑ والا ہونا یا ہوجانا، مڑاہواہونا،جھکاہواہونا،چکردار ہونا۔الـمـعـراج: آدھی رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ۲۷ رجب کو یروشلم سے سات آسمانوں کا سفر۔لیـــلة المعراج: معراج کی رات،تـعاریج: خمیدگیاں۔ مخنی خطوط،موڑ،پیچ،بل،چکر،لہردار خطوط،بل کھاتی ہوئی چیزیں۔تعَرّج: ٹیڑھا میڑھا(راستہ)مُتعَرِّج: چکردار، بل دار، پیچ در پیچ، پیچیدہ، پیچ دار۔ٹیڑھا میڑھا،پر پیچ وخم۔مُـنْـعَـرِج: چکردار،بل کھاتاہوا، پیچدار،پیچ در پیچ،پرپیچ،ٹیڑھا میڑھا،مُـنْـعَـرَج جمع مُنْعَرَجات: موڑ،پھیر،اعوجاج پیچ،بل،زاویہ۔

عرد: ا۔عَـرَدَ ـُـ عَرْدًا الحجرَ: پتھر کو دور پھینکنا۔عَرِدَ ـَـ عَـرَدًا: بھاگ جانا،فرار ہوجانا۔عَـرَّدَ: بھاگ جانا،فرار ہوجانا۔ــ السهُم فی الرمِیَّة: تیر کا شکار کے پار ہونا۔الـعَرَّادَة جمع عَرَّدَات: پتھر پھینکنے کا جنگی آلہ۔ــــ عند العامة: کچے کوئلے،(لکڑی کے جو جلانے پر دھواں دیں)۔

۲۔عَـرَدَ ـُـ عُرُودًا و أعْرَدَ النباتُ او النابُ: پودے یادانت کا پورا نکل آنا اور سخت ہوجانا۔ــــ الشجُر: درخت کا موٹا اور بڑا ہوجانا۔عَـرِدَ ـَـ عَرَدًا: بیماری کے بعد کے جسم کا قوی ہوجانا۔عَرَّدَ: بمعنی عَرِدَ نیز۔ ــــ الـنجْمُ: ستارہ کا بلند ہونا۔الـعَـرْد والـعَرِد والعُرُدّ: بہت سخت۔

۳۔عَـرَّدَ الـنـجـمُ: آسمان کے بیچ پہنچ کر مائل بغروب ہونا۔الرجُلُ: راستہ چھوڑ کر اس سے مڑ جانا۔

۴۔الـعَـرَادَة (ح): مادہ ٹڈی۔حالت کہتے ہیں هـو فی عَرَادِةِ خیر: وہ اچھی حالت میں ہے۔العَرِیْد: طور طریقہ،عادت،کہتے ہیں۔هـذا عَـرِیْدُهُ: یہ اس کی عادت ہے۔

۵۔عَرْدَسَ هُ: کو پچھاڑنا۔العَرَنْدَس: بڑا سیلاب۔(ح): بڑا شیر۔عِـزٌّ عَـرَنْـدَسٌ: ثابت رہنے والی عزت۔ العَـرَنْدِس: عیسائی بچوں کا کھیل،ولیہ بربارہ کی عید سے پہلی رات کو بچے بھیس بدل کر گھروں میں جاتے ہیں۔یہ عید ۴ دسمبر کو منائی جاتی ہے۔(غالبًا سریانی زبان کا لفظ ہے)۔

عرز: ا۔عَرَزَ ـِـ عَرْزًا الشیَٔ: کو سختی سے کھینچنا۔

۲۔ عَرَزَ ـِـ عَرْزًا الرجُلَ: کوملامت کرنا۔

۳۔عَـرِزَ ـَـ عَرَزًا الشیُٔ: سکڑنا۔عَرَّزَ الشیُٔ: سکڑنا۔ ــ الشیَٔ: کو چھپانا۔عَـارَزَ وتَـعَارَزَ و إسْتَعْرَزَ الشیُٔ: سکڑنا۔

۴۔عَـرِزَ ـَـ عَرَزًا الشیٔ: سخت ہونا۔عَارَزَهُ: سے دشمنی کرنا،کی مخالفت کرنا۔تَـعَـرَّزَ علیـه: پر،کیلئے دشوار ہونا۔إسْتَعْرَزَ الرجُلُ: سخت ہونا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

٥۔أَعْرَزَ الشيَّ: کوخراب کرنا، بگاڑدینا۔

٦۔العِرْزَال: مچان، درخت پر بنا ہوا جھونپڑا (وہیں محافظ کیلئے)۔

عرس: ا۔عَرِسَ ـَ عَرَسًا: خوشی میں رہنا۔أَعْرَسَ: ولیمہ کرنا۔بـأهلـه: دولہا کا اپنی دلہن کو اپنے گھر لانا۔ جماع کرنا تعَرَّسَ لِامرأته: اپنی بیوی پر فریفتہ ہونا۔ العِرْس جمع أَعْرَاس: دلہن، عِرسُ المرأة: دولہا۔ العُرْسُ و العُرُس: جمع أَعْرَاس و عُرُسات زفاف ولیمہ کا کھانا۔العَرُوس جمع عَرَائِس: دولہا، دلہن، جمع کیلئے کہتے ہیں۔هـم عُرُس و هُنَّ عَرَائِس اور دفع التباس کیلئے عورت پر عروسہ کا اطلاق کرتے ہیں العَرِیس: دلہن۔

٢۔عَرَسَ ـُ عَرْسًا عنه: سے پھر جانا۔عَرِسَ ـَ عَرَسًا علی ماعنده: سے باز رہنا۔بخل کرنا ـــ عنه: بزدل ہونا، سے پیچھے ہٹنا، اِعْتَرَسُ القوم عنه: سے جدا ہونا، متفرق ہونا۔

٣۔عَرَسَ ـُ عَرْسًا البعیرَ: بیٹھے ہوئے اونٹ کی گردن کو اگلے پاؤں سے باندھنا۔عَرِسَ ـَ عَرَسًا الشيُّ: سخت ہونا۔العَرْس (مص) جمع أَعْرَاس: رسی، خیمے کے بیچ کا کھمبا۔العِرَاس: وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔

٤۔عَرِسَ ـَ عَرَسًا الرجُلُ: اترانا ـــ منه: سے بے خود ہونا صفت عَرِس

٥۔عَرِسَ ـَ عَرَسًا به: سے چمٹ جانا، محبت کرنا ـــ الشرُّ بینهم: دشمنی کا لوگوں میں ہمیشہ رہنا۔أَعْرَسَ الشيَّ: سے چمٹنا، محبت کرنا۔العِرِّیس و العِرِّیسَة: بیشہ شیر، شیر کی پناہ گاہ۔

٦۔عَرَّسَ القـوم: آرام کیلئے رات کے وقت اترنا۔ المُعْـرَس والمُعَرَّس: آرام کے لئے اترنے کی جگہ۔

٧۔أَعْرَسَ الرجُلُ: آٹا پینے کے لئے چکی کے ایک پاٹ کو دوسرے پر رکھنا۔

٨۔العُرْس جمع أَعْرَاس (ح): اونٹ کا چھوٹا بچہ، ابنُ عِرْسٍ جمع بـنـات عِرْسٍ: نیولا (مذکر و مونث)۔ العَرَّاس والمِعْرَس و المُعَرِّس: اونٹ کے چھوٹے بچوں کو بیچنے والا۔

○ عَرَّسَ ہ ب: کی سے شادی کرنا۔أَعْـرَسَ: شادی کی ضیافت کا اہتمام کرنا، عُرس و عُرُس جمع أَعْرَاس و عُـرُسـات: شادی، شادی کی تقریب، عِـرْس جمع أعراس: شوہر، بیوی، ابن عِرس جمع بنات عِرس: نیولا۔عِـرْسَة: نیولا۔عَـرُوس جمع عُرُس: دولہا۔ مونث جمع عـرائس: دلہن، گڑیا۔العَرُوسَان: دلہن اور دولہا، میاں بیوی جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ عَـرائِس النیل: کنول۔عَرُوسَة جمع عَـرَائِس: دلہن، گڑیا۔عَـرُوسَةُ البُرْقـع: مسلمان خواتین کے نقاب کی زیبائش کرنیوالی دھاتی ٹکلیاں۔عَـرِیس: دولہا۔عِرِّیس: شیر کا بھٹ۔

عرش: ا۔عَـرَش ـِـُ عَرْشًا: لکڑی کا مکان بنانا ـــ البیتَ: گھر بنانا ـــ و ـ العَرْش: چھت بنانا، تخت بنانا ـــ البئرَ: کنویں کے نچلے حصہ کو قد آدم تک پتھروں سے بنا کر لکڑی سے بنانا۔عَرْشًا و عُرُوشًا الکَرْمَ: انگور کی بیلوں کو ٹٹی پر چڑھانا۔عَرَّشَ الکَرْمُ: انگور کی بیلوں کا ٹٹی پر چڑھنا۔الـطائِرُ: پرندہ کا بلند ہو کر اپنے نیچے والے کو بازوؤں سے سایہ کرنا ـــ الکرمَ: انگور کی بیلوں کو ٹٹی پر چڑھنا۔البیتَ: گھر کی چھت بلند کرنا۔أَعْرَشَ: ٹٹی بنانا۔العَـرْش (مص): جمع أَعْرَاش و عُرُوش و عِرَشَة و عُرُش: تخت شاہی وہ لکڑی جس سے کنویں کا اوپر کا حصہ بنایا جائے۔ شامیانہ، خیمہ، چھپر، شہ نشین، محل، کنج، کنویں کی من، کسی چیز کا ستون اور قوام کہتے ہیں۔ثُـلَّ عـرشُـهُ: اس کی عزت جاتی رہی اور معاملہ کمزور پڑ گیا ـــ من البیت: گھر کا چھت ـــ من القوم: قوم کا سردار۔عَرْشُ الطائِرِ: پرندے کا گھونسلا۔عـرش الکرم: انگور کی ٹٹی۔الـعَـرِیش جمع عُرُش: چھپر، کنج، جلہ، عارضی دکان، باڑہ، انگور کی ٹٹی، ـــ واحد عـریشة جمع عُرُشـان و عَرَائِش: انگور کا درخت (عام لوگوں کی زبان میں) العَرِیشة: جمع عَرَائِش: پالکی۔

٢۔عَـرَش ـِـ عُـرُوشًا بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔عَـرِش ـــ عَرْشًا و عَرَشًا بغریمه: اپنے قرض دار کے ساتھ لگا رہنا۔تعَرَّش بالمکان: جگہ پر ثابت رہنا ـــ بالامر: سے چمٹا رہنا ـــ الدابةَ: جانور پر سوار ہونا۔

٣۔عَرِش ـَ عَرْشًا و عَرَشا: متحیر ہونا، حیران و ششدر ہونا۔

٤۔عَـرِشَ ـَ عَرْشًا و عَرَشًا عنه: سے پھر جانا، کو چھوڑ دینا۔

٥۔العُرْش: قدم کی پشت کا بلند حصہ۔

○ عَـرَشَ ـِـُ عرشا: (انگور کی بیلوں کے لئے) جعفری بنانا انگور کی بیلوں کو جعفری پر چڑھانا، ٹٹی پر چڑھانا۔ عَـرَّش ہ: پر چھت ڈالنا، عَـرْش جمع عُـرُوش و اَعراش: تخت شاہی، قبیلہ، العـریش: شمالی مصر کا بحر [illegible] ایک شہر [illegible] جعفری، کنج، جلہ۔

عرص: ا۔عَرَصَ ـِ عَرْصًا و عَرِصَ ـَ عَرَصًا البرقُ: بجلی کا پراگندہ ہو کر چمکنا، بجلی کا کڑکنا اور کوندنا، صفت عَـرِص و عَـرَّص أَعْـرَصَ الشيُّ: مضطرب ہونا، ہلنا۔اِعْتَرَصَ الجلدُ: کھال پھڑکنا ـــ البرقُ: بجلی کا کڑکنا اور کوندنا ـــ الرجُلُ: اچھلنا، کودنا۔العَرّاص: کڑکتی اور بار بار چمکتی بجلی، گرجتا اور بجلی والا بادل۔

٢۔عَرَصَ ـِ عَرْصًا و عَرِصَ ـَ عَرَصًا الرجُلُ: خوش، تیز، چست اور شگفتہ خاطر ہونا۔عَـرَّصَ اللحمَ: گوشت کو صحن میں خشک کرنے کے لئے رکھنا۔ تعَرَّص بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔اِعْتَرَصَ الغلامُ: لڑکے کا کھیل کود کرنا اور خوش ہونا۔العَرْصَة جمع عِراص و أَعْراص و عَرَصات: گھر کا صحن، وہ جگہ جس میں کوئی عمارت نہ ہو۔

٣۔عَرَّص البعیرَ: اونٹ کو سدھانا۔

○ مُعَرَّص: دیوث، دلال، بھڑوا۔

عرض: ا۔عَـرَضَ ـِ عَرْضًا: ظاہر ہونا اور ہمیشہ نہ رہنا ـــ الشيَّ لفلان: کو کوئی چیز پیش کرنا ـــ الشيَّ علیه: کو چیز دکھانا ـــ المتاعَ للبیع: سامان کو فروخت کیلئے خریداروں کو دکھانا ـــ الجندَ: فوج کا جائزہ لینا ـــ القوم علی السیف: لوگوں کو تلوار سے مارنا ـــ الحصیرَ: چٹائی بچھانا۔

عَـرِضَ ـــَ عَـرَضًا: ظاہر ہونا۔ ہمیشہ نہ رہنا۔عَرَّضَ المتـاعَ: سامان کو سامان کے بدلے فروخت کرنا۔ أَعْـرَضَ الامرُ: ظاہر ہونا کہتے ہیں۔عـرضتُـهُ فـأعْـرَضَ: میں نے اسے ظاہر کیا تو وہ ظاہر ہو گیا۔ اِعْتَـرَضَ: پیش ہونا۔کہا جاتا ہے: عَـرَضْتُـهُ فاعْتَرَضَ: اس نے اس کو پیش کیا تو وہ پیش ہوا ـــ القـائـد الجندَ (ع ا): فوجیوں کا ایک ایک کر کے معائنہ کرنا۔اِسْتَعْـرَضَ القومَ: لوگوں کو دریافت حال کے بغیر قتل کرنا۔کہتے ہیں۔استعرض یُعْطی مَنْ أَقْبَلَ و مَنْ أدبر: وہ بغیر سوال کئے ہر آنے جانے والے کو دیتا رہا۔کہتے ہیں۔اِسْتَعْرِضِ العربَ: جس عرب سے چاہو دریافت کرلو ـــ الشيَّ: کوئی چیز پیش کرنے کو کہنا ـــ ہ: کو کہنا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دکھاؤ۔العَارِضُ: غیر اصلی، نقلی، غیر جوہری، غیر حقیقی، غیر مادی، تغیر پذیر۔العارضة جمع عَوَارِض: وہ دانت جو منہ کے کنارہ پر ہو۔ ہنستے وقت منہ کا نظر آنیوالا حصہ حاجت۔ضرورت العَرْض (مص): جزا سزا کا دن، التجا، گزارش ـــ جمع عُروض: اسباب، سامان (نقدی کے سواء) ـــ من اللیل جمع

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عُـرُوض و عِـرَاض و أَعْـرَاض: رات کی ایک گھڑی۔ عـرضُ الحال عند الکتّاب: حاکم کودی جانے والی درخواست جمع عُـرُوض الاحـوال العَـرَض جمع أَعْـراض: عارضی، غیردائمی چیز، کہتے ہیں۔ هـذا الامرُ عَـرَضٌ: یہ بات عارضی ہے اور زائل ہونے والی ہے۔ سامان، متاع، مایا، سراب، غیر حقیقی شے، بخشش، غنیمت، ــــ من کل شئ: جوقائم بالذات نہ ہو کسی جوہر کے ساتھ قائم ہو۔ أعْـرَاضُ الشجر: درخت کے بالائی حصے۔ العُرُضَة: نشانہ۔ العُرَاضة: خوشی کے موقعہ پر کی جانے والی فائرنگ۔ سفر سے واپس آنے والے کی طرف سے پیش کیا جانے والاتحفہ۔ العَرُوض: جمع أَعارِيض (مونث): اشعار کا وزن۔ شعر کے پہلے مصرع کا جزو اخیر۔ العَرُوضی: علم عروض کا ماہر۔ العَرِيضَة: درخواست۔ المَعْرِض: نمائش گاہ کچھ پیش کرنے اور ظاہر کرنے کا موقعہ۔ کہتے ہیں۔ ذکرتـه فی معرض کذا: میں نے اظہار کے موقعہ پر اس کا ذکر کیا۔ المِعْـرَض: دلہن کے شب عروسی کے کپڑے۔ المَعْرُوض: حکام کی خدمت میں پیش کی جانے والی درخواست۔

۲۔ عَـرَضَ ــِ عَـرْضًا له عَارِضٌ من الْحُمّی: کو بخار آنا۔ ــ الرجُلُ: بغیر کسی بیاری یا سبب کے مرجانا۔ ــ لی عارِض: مجھے ایک مانع پیش آیا کہتے ہیں۔ لاتعرِض عَـرْضَ فلان: فلاں کو برائی سے یاد نہ کرو۔ عُرِضَ: پاگل ہونا۔ عَـرَّضَ الشـئَ لـلشئ: کو کے مقابل کرنا۔ کہتے ہیں عَـرَّضْـتَ مـالَكَ للهلاك: تو نے اپنے مال کو بربادی کے لئے پیش کردیا۔ تَـعَـرَّضَ: فاسد ہونا۔ ــــ الامرَ وللامر والی الأمر: کے درپے ہونا، کو طلب کرنا۔ إعْتَـرَضَ: چوڑائی میں ہونا پار ہونا۔ البـعیرَ: سرکش اونٹ پر سوار ہونا۔ ــــ الشئَ: کا تکلف کرنا۔ ــــ له: کو منع کرنا۔ ــــ دون الشئ: میں حائل ہونا۔ ــــ له بسهم: کے سامنے آ کر اسے تیر مارنا۔ ــ عِرضَهُ: کی آبرو گھٹانا۔ العَارِض: بادل، پہاڑ کہتے ہیں۔ عَـرَضَ عَـارِضٌ: ایک مانع نے روک دیا۔ الـعَـارِضَة جمع عَـوَارِض: عارِض کا مونث، پیش آنے والی بات۔ العَرْض: جنون، بادل، پہاڑ، لشکر جرار، بہت ٹڈیاں۔ الـعِـرْض: بڑا بادل۔ بہت ٹڈیاں، لشکر جرار۔ نفس (کہتے ہیں۔ اکرمتُ عنـه عِرضی: میں نے اس سے اپنے نفس کو بچایا۔) جسم، جسم کی بو (ع ا) مسامات۔ ــــ جمع أعْرَاض: عزت، حسب، شرف، ستائش اور مذمت کا مقام، اچھی خصلت۔ ــ من الرحال: بیہودگی سے پیش آنے والا آدمی۔ کہتے ہیں هـو نـقـیّ العِرض: وہ پاکدامن ہے۔ هـو عَرِبُ العِرْض: وہ خاندان کا کمینہ ہے۔ ذو و الـعـرض من القوم: اشراف قوم۔ العَرْض جمع أعراض: عارضہ، کہتے ہیں۔ فعله عَرَضًا: اس نے بے سوچے سمجھے بغیر کیا۔ العُرْضَة: ہمت، کشتی کا داؤ پیچ، کہتے ہیں۔ هـو عُـرْضةٌ لکذا: وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ فلانۃٌ عُرْضَةٌ لزوجها: فلاں عورت اپنے شوہر پر حاوی ہے۔ جعلته عُرضِة لکذا: میں نے اسے، کا نشانہ بنایا۔ هُوَ عُـرْضَةٌ لـلناس: وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ ہے۔ هو عُرضَةٌ للکلام: وہ اعتراضات کا نشانہ ہے۔ الـعِرضة: پیش کرنے کی نوعیت۔ عِـرُص کا مونث یعنی بیہودگی سے پیش آنے والی عورت۔ الـعُـرْضی من الابل: سرکش اونٹ جو ابھی تک اچھی طرح نہ سدھایا گیا ہو۔ الـعَـرُوض: بادل، دامن کوہ کا راستہ۔ العِرّیْضُ: شر کے ساتھ پیش آنے والا، برائی کے ساتھ مخالفت کرنے والا۔

۳۔ عَرَض ــِ عَرْضًا العودَ علی الاناء: برتن پر لکڑی کو چوڑائی میں رکھنا۔ عَرُضَ ــُ عِـرَضًا و عَراضَةً: چوڑا ہونا، صفت عَـرِيـض و عُـراض۔ عَـرَّضَ الشئَ: کو چوڑا کرنا۔ أَعْرَضَ الشئَ: کو چوڑا کرنا۔ ــ المسالةَ: لمبا سوال کرنا۔ ــ فی المکارم: بہت فیاض ہونا۔ ــ الثوبُ: کپڑے کا چوڑا ہونا۔ إسْتَعْرَضَ: چوڑی چیز طلب کرنا۔ الـعَـارِضَة جمع عَـوَارِض: دروازے کے اوپر کی لکڑی جس میں دروازہ گھومتا ہے۔ عرض میں رکھی ہوئی چھت کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی۔ العُرض: دامن کوہ۔ ــــ من البحر او النهر: سمندر یا دریا کا بیچ۔ ــ من الحدیث: بہتر اور بڑی بات، کہتے ہیں۔ هو من عُرُضِ الناس: وہ عام لوگوں میں سے ہے۔ الـعَـرْض: چوڑائی، دامن کوہ۔ وسعت، زمین میں کسی جگہ کی چوڑائی (فلک) عرض البلد: عرض البلد کا درجہ کسی جگہ کے شاقول اور استوائی سطح کے درمیان کا زاویہ۔ بیروت کی رسدگاہ کا عرض۔ کسی ستارے کا آسمانی عرض۔ فلک بروج کی سطح اور زمین اور ستارے کے درمیان خط مستقیم کا زاویہ۔ الـعِـرَاض جمع عُـرُض: اونٹ کی ران کی چوڑائی میں علامت یا لکیر۔ عِرَاضُ الحدیث: بڑی اور بہتر بات۔ الـعُـراض و الـعُـرُض: چوڑا۔ العُرَاضَة: عُراض کا مونث۔ العُرُوض: بہت چیز۔ الـعَرِیض جمع عِراض: چوڑا۔ دعـاءٌ عَرِیضٌ: لمبی چوڑی دعاء۔ کہتے ہیں۔ هـو عَـرِیـضُ البطَانُ: وہ مال دار ہے۔ الـعَـرِيـضة: عَـرِیض کا مونث۔ المِعْرَاض: بغیر پر کا تیر جس کا درمیانی حصہ موٹا ہو۔

۴۔ عَـرَض ــِ عَرْضًا الفرسُ: گھوڑے کا اپنے سر اور گردن کو جھکا کر دوڑنے لگنا۔ عَـارَضَ مُـعَـارَضَةً وعِرَاضًا ہُ: سے پھر جانا۔ ــ الرجُلُ: راستہ میں ایک جانب ہونا۔ أَعْـرَضَ عـنـه: سے منہ موڑنا۔ کہتے ہیں ساعـرض لك الخیـر: تمہیں بھلائی کرنے کی قدرت ہوئی۔ أَعْـرَض لك الـظبی فارمِه: ہرن تمہارے سامنے آ گیا ہے لہٰذا اسے تیر مارو۔ تَـعَرَّضَ: ایک جانب کو ظاہر کرنا۔ ــــ الشئُ: ٹیڑھا ہونا۔ العَارِضَة جمع عَوَارِض: گوشہ، کنارہ جانب۔ الـعـراض جمع عُـرُض: گوشہ، جانب حصہ۔ العُرْضِ: جانب، پہلو، گوشہ، کنارہ۔ ــ من السَیفِ او الـعُنُق: تلوار یا گردن کا پہلو یا جانب۔ کہتے ہیں۔ نظر الیـه عن عُرضٍ و کلّمه عن عُرُضٍ: اس نے اسے گوشہ چشم سے دیکھا اور ایک جانب ہو کر بات کی، خرجوا یضربون الناس عن عُرُضٍ: نکل کر انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور پرواہ نہ کی کہ کس کو مار رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں۔ ــ اضربْ به عُرْضَ الحائط: اسے دیوار کے ایک گوشہ میں پھینک دو اور اعراض کرو۔ الـعَـرْض: وادی۔ الـعِـرْض جمع عُرضـان: وادی، وادی یا شہر کا پہلو جانب، طرف، ڈھلان، ہر وہ وادی جس میں درخت پانی اور دیہات ہوں۔ العُرْضی: جو زین پر قائم نہ رہ سکے۔ العَرُوض: گوشہ۔ ــــ جمع أعَارِیض: سرکش اونٹنی جو سدھائی نہ گئی ہو۔

۵۔ عَـرَضَ ــِ عَرْضًا عَرَضَ او عُرضَ فلان: کسی شخص کی سی چال چلنا۔ ــــ له من حقّهِ ثوبًا: کو اس کے حق کی جگہ اس کے بدلہ میں کپڑا دینا۔ عَرَّضَ ہُ من ماله بکذا: کو بدلہ میں کچھ دینا۔ عَـارَضَ مُعَارَضَةً و عِرَاضًا ہُ: سے کنی کترانا۔ ــــ الکتابَ بالکتاب: کتاب کا کتاب کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ ــــ ہُ بمثل صـنیعـه: دوسرے کی طرح کام کرنا، کے پاس اس جیسی چیز لانا۔ ــــ الرجُلَ: کے کلام کی تردید کرنا، کی مزاحمت کرنا، کے مقابلہ میں حصہ لینا۔ ــ فی المسیر: کے برابر چلنا، کے مقابلہ میں چلنا، کے آگے چلنا، کہتے ہیں۔ عـارضـه فعرضه: اس نے مخالفت میں مقابلہ کیا اور اس پر غالب آیا۔ تـعَـارَضَ الرجلان: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا۔ إعْتَـرَضَ علیه من قول او فعل: کے قول یا فعل کو خطا کی طرف منسوب کرنا۔ العَـارِض (فا): رخسارہ۔ الـعـارِضة جمع عَـوارِض: رخسارہ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

العَرْض مص کہتے ہیں۔ اشتریت المتاع
بعَرْضٍ میں نے سامان کے بدلے میں اس جیسے
سامان کو خریدا۔ الشیءُ عَرْضُ عینی چیز میری نگاہ
کے سامنے ہے۔ العَرُوض وہ جگہ جو چلنے پر آپ
کے مزاحم ہو۔ کہتے ہیں۔ ھذہ المسالة عَرُوضُ
ھذہ: یہ مسئلہ اس کی نظیر ہے۔

۶۔ عَرَض ـُ عَرْضًا مکہ و مدینہ یا ان کے اطراف میں
جانا۔ العَرُوض مکہ و مدینہ اور ان کا اردگرد۔

۷۔ عَرَض ـُ عَرْضًا الکتاب کتاب کو زبانی پڑھنا۔
عَرَّضَ الکاتبُ ادیب کا تبیین و تصریح نہ کرنا۔ ـــ لہ
وبہ تعریض کرنا یعنی اشارتاً اور کنایۃً کہنا مگر اپنی بات
واضح نہ کرنا۔ فلانٌ عمدہ رائے والا ہونا۔ العارِضہ
عمدہ رائے، کلام کی تنقیح (تصحیح) کہتے ہیں۔ فلانٌ ذو
عارضۃٍ فلاں شخص صاحب بیان فی البدیہہ کہنے والا
اور فصیح ہے۔ العروض من الکلام مضمون، منشا،
مدعا۔ التعریض فی الکلام توضیح کے بغیر سامع کو
اپنا مقصد سمجھانے والی بات المِعْراض جمع مَعَاریض
توریہ، ذومعنی بات۔ تلمیح کنایہ ـــــ من الکلام
مضمون منشا، مدعا۔ الکلامُ المُعَرَّض جمع مَعَارِض
و معاریض مبہم کلام، ان فی المَعَاریض
لمندوحةً عن الکذب تعریض میں جھوٹ سے
بچنے کی گنجائش ہے۔

۸ عَرُض ـُ عرضا چوڑا ہونا یا ہو جانا۔ عَرَض ـِ
عَرْضًا ل کے سامنے ظاہر ہونا کو دکھائی دینا، کے
راستے میں آنا، سے پیش آنا۔ پر (افتاد وغیرہ) پڑنا، کو
خیال آنا، کی طرف مڑنا، کی، کا خیال رکھنا، کی
نگہداشت کرنا، سے دلچسپی لینا، کی طرف توجہ کرنا، تن
دہی سے کوئی کام کرنا، کی طرف توجہ کرنا، میں حصہ لینا،
کا جائزہ لینا، کا آغاز کرنا، پر کہنا، لکھنا، کو پیش کرنا، سے
متعلق ہونا ـــــ ہ علی کو کچھ دکھانا، کو کچھ پیش کرنا،
کے سامنے چیز کی نمائش کرنا، کے سامنے کچھ رکھنا ـــــ
ہ (فلم وغیرہ) دکھانا، (ڈراما) سٹیج پر لانا (ڈراما)
کرنا ـــــ ہ علی کو کچھ پیش کرنا، کا خیال دل میں
لانا، کو کچھ تجویز کرنا، کو کا ہدف بنانا ـــــ ہ کا معائنہ
کرنا۔ ہ فوجی دستے کا معائنہ کرنا ـــــ ہ کا جائزہ
لینا۔ عَرِض پاگل ہونا یا ہو جانا۔ عَرَض لہ
عارِضٌ اس کے راستہ میں ایک رکاوٹ آگئی۔
عرض لہ خاطرٌ اس کو ایک خیال آیا، اس کے پاس
ایک تجویز تھی۔ عَرَّض ہ کو چوڑا کرنا، بڑا کرنا، وسیع
کرنا۔ ہ/ہ ل کو (خطرے مصیبت میں) ڈالنا، کو
(دھوپ وغیرہ) دکھانا ـــــ ل ب پر چوٹ کرنا،
تعریض کرنا، کی طرف اشارہ کرنا، تلمیح کرنا، کنایہ کرنا،
اشارۃً کہنا۔ عرَّضہ للنور کو روشنی کے سامنے کرنا۔
عَارَضَ ہ/ہ کا مقابلہ کرنا، کی مقاومت کرنا، مزاحمت
کرنا، کے خلاف کام کرنا، کی تردید کرنا، مخالفت کرنا،
کے خلاف اعتراضات اٹھانا، احتجاج کرنا، کے خلاف
ہونا، کے برخلاف ہونا، کے مقابل ہونا، سے کنی کترانا،
سے بچنا ـــ ہ ب کا سے مقابلہ کرنا۔ أعْرَض من
سے ہٹنا، پھرنا، سے کنی کترانا، سے بچنا، سے پہلوتہی
کرنا، سے گریز کرنا، کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، سے
دستبردار ہونا، سے قطع تعلق کرنا، اپنا ماننے سے انکار
کرنا، سے بےتعلقی یا لاعلمی ظاہر کرنا، کا ذکر نہ کرنا۔
أعْرَض عن إلی سے ہٹ کر کسی اور طرف رخ
کرنا۔ تَعَرَّض ل کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا،
کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، پر اعتراض یا اعتراضات کرنا،
کا سامنا کرنا (جیسے مسئلہ کا): میں مداخلت کرنا۔ مخل
ہونا، سے ٹکرانا، متصادم ہونا، کی طرف اپنی توجہ مبذول
کرنا (کسی موضوع کی) تفصیلات میں جانا، کو اپنے سر
لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا۔ (کوئی کام)
شروع کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا۔ کا خطرہ
مول لینا۔ (دھوپ وغیرہ میں) رکھا جانا۔ تَعارَض
ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ـــ مع سے متضاد ہونا،
کے خلاف یا برعکس ہونا، سے متصادم ہونا، کے الٹ
ہونا۔ اِعْتَرَض ہ کے پاس جانا، اپنے آپ کو کے
سامنے پیش کرنا ـــ علی پر اعتراض کرنا، اعتراضات
کرنا۔ کو ویٹو کرنا، کے بارے میں حق استرداد استعمال
کرنا، کے خلاف احتجاج کرنا، کی مزاحمت کرنا، مخالفت
کرنا، اعترض ہ/ہ یا ل کے راستہ میں حائل ہونا،
کا راستہ روکنا ـــ ل کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا۔
ـــ ہ کو پیش آنا، واقع ہونا، پر پڑنا (افتاد وغیرہ)۔
إعْتَرَض سبیلَہ کا راستہ روکنا۔ اِسْتَعْرَض ہ/ہ
کو دکھانے کی درخواست کرنا ـــ ہ کا جائزہ لینا
(خصوصاً اپنے تصور میں یا اپنی ذہنی آنکھ کے سامنے)۔
ہ کو یاد کرنا، کو خیال میں لا کھڑا کرنا، کی آنکھوں میں
تصویر پھرانا، کی ذہن میں تصویر لانا ـــ ہ کا وزن
کرنا، کو تولنا، کی اہمیت یا قدر و قیمت کا اندازہ کرنا، کا
جائزہ لینا، پر غور کرنا، کا معائنہ کرنا، (فوجی دستوں) کا
معائنہ کرنا ـــ ہ کو پیش کرنا۔ بالتفصیل سمجھانا (خصوصاً
نیا نظریہ) ـــ سختی سے جانا ـــ ھ (دشمنوں کا)
زیادہ بکھیڑے کے بغیر قتل عام کرنا۔ عَرْض جمع عُروض
چوڑائی عرض پیشکش، اظہار، مظاہرہ، ڈرامہ کرنا، سٹیج پر
لانا یا پیش کرنا، دکھانا، تمثیل پیش کرنا، نمائش بیان،
تشریح، گزارش، درخواست دائر کرنا، تجویز، پیشکش،
ٹینڈر (Tender)، ٹھیکہ کا تخمینہ، پریڈ (Parade)،
فوجی معائنہ (Review)، تجارتی مال، مال تجارت۔
بالعرض کے پار، آر پار، کے سامنے کی راہیں،
آڑا، ترچھا، چوڑائی میں، العرض والطلب رسد و
طلب Supply & Demand، یا طلب و رسد،
عرضُ الازیاء فیشن شو (Fashion show)،
عرض حال یا عرضِ حال جمع عرضحالات
درخواست خط العرض یا درجة الارض عرض
البلد کا درجہ، ڈگری۔ شُبّاکُ العرض شو ونڈو
Show window۔ یومُ العرض یوم آخرت،
آخرت، عَرْضِی قاطع، افقی، خطٌّ عرضی عرض
البلد کا درجہ، جغرافیائی عرض البلد۔ عِرْض جمع اعراض
عزت، وقار، نیک نامی، عظمت، مرتبہ، بلند مرتبہ، معزز
عہدہ، انا فی عِرضك مجھے آپ کی سخاوت پر اعتماد
ہے، مجھ پر رحم کیجئے۔ عُرْض جانب بیچ درمیان۔
فی عُرْضِ البحر سمندر میں، کھلے سمندر میں۔
ألقی (ضَرَب) بہ عُرْضَ الحائط کو حقیر جاننا،
گھٹیا یا برا جاننا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، ذلیل جاننا،
سے نفرت کرنا، کو مسترد کرنا، کو تباہ کرنا، کو نا کام بنا دینا، کو
ترک کرنا، سمندر میں پھینکنا۔ نظر الیہ عن عُرْض
کو انکھیوں سے دیکھنا، شک وشبہ کی نظروں سے دیکھنا،
کو ترچھی نظر سے دیکھنا۔ فی عُرْضِ الناس لوگوں
کے ہجوم کے درمیان ھو من عُرْضِ الناس وہ عام
لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ عُرْضانی چوڑے رخ
(پر)، چوڑے رخ پڑا ہوا، عرض البلدی، آڑا، ترچھا
ناپا ہوا عَرَض جمع أعْرَاض حادثہ، سانحہ، غیر یقینی
اور غیر ضروری خصوصیت یا وصف، اتفاقی چیز، بیماری کی
علامت۔ عَرَضًا، بالعَرَض ضمناً، اتفاقاً، اتفاقی۔
عَرَضی اتفاقی، ناگہانی، غیر ارادی، نا متوقع، غیر
ضروری، ہنگامی، اتفاقی، وقتی۔ عَرَضیات غیر ضروری
واقعات، غیر اہم واقعات، اتفاقی واقعات۔ خطیئة
عَرَضِیّة قابل معافی جرم، گناہ۔ عُرْضة نشانہ۔
ہدف، منشا، مطلب مقصد، نیت مراد، منصوبہ ـــ ل
کا نشانہ، کے خطرے میں، کا ہدف، کا امکان رکھنے
والا، کا مستوجب، کے لئے موزوں، کے شایاں، کے
مناسب۔ عَرُوض عروض (Prosody) جمع
أعاریض پہلے مصرعہ کا جزو اخیر۔ علم العروض
علم عروض۔ عُرُوضی عروض سے متعلق عَرِیض جمع
عِراض چوڑا، وسیع، بڑا، دور تک پھیلا ہوا۔ عَرِیضة
جمع عَرائض درخواست، عرضی۔ مَعْرَض جمع

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مَعارِض: وہ جگہ جہاں کوئی چیز دکھائی جائے یا اس کی نمائش کی جائے۔ شوروم، سٹیج، نمائش، بیان، تشریح، شو (Show) میلہ (تجارتی) (Fair) وقت، موقع، فی معرِض: کی شکل میں کے انداز میں، کے موقعہ پر، کے وقوع پر، کے ظہور پر، لسنا الآن في معرض الكلام عن: یہ کے بارے میں گفتگو کی جگہ نہیں، یہ گفتگو کا موقع نہیں۔ مَعْرِضُ الازياء: فیشن شو (Fashion Show)، معرض الصحف: اخباری تبصرہ، جائزہ Press review مِعْرَض: شادی کی عبا۔ مِعراض: قال في مِعراض کلامه: دوسری باتوں میں اس نے کہا، اس نے اتفاقاً ذکر کیا۔ تعریض: اشارہ، تلمیح، کنایہ، مُعارَضة: مخالفت، حزب، مخالف، حزب اختلاف (The opposition) مزاحمت، مقاومت، تردید، احتجاج، اعتراض، برق گزار Resistance (برقیات)۔ في اِعْراض: بادلِ نخواستہ، ہچکچاہٹ سے، غیر آمادگی سے، نارضامندی سے، حق الاعتراض: ویٹو (کا حق) Veto یا right of veto۔ اِستعراض: جائزہ طائرانہ نظر، پریڈ، (فوجی) معائنہ، حالات حاضرہ پر تلخ تبصرے والا ڈراما (Revue) موسیقی کا شو۔ (Musical show) فِرْقَة استعراضية: کھیل کا طائفہ Show troupe، حالات حاضرہ پر تلخ تبصرہ پر مبنی ڈرامے کا طائفہ۔ فلم اِسْتِعراضي: موسیقی والی فلم، عارِض جمع عارضون: نمائش کنندہ، مظاہرہ کرنیوالا، مظاہر (demonstrator) جمع عَوارِض: رکاوٹ، عارضی خلل، خلافِ قیاس حالت حملہ، دورہ، باری، اتفاقی یا غیر ضروری (چیز) حادثہ، رخسار، العارضان: رخسارے خفيفُ العارِضَين: چھدری داڑھی والا۔ في عارِضِ الطريق: سڑک کے بیچ میں عارِضة جمع عارِضات: خاتون مظاہرہ کرنے والی، نمائش کرنے والی۔ عوارِض: رخسار، (دروازے کا) پاکھا، بازو، بڑا شہتیر، کھلنے والا روشن دان، ہوادان، لکڑی کے فرش کی کڑی یا شہتیر، شہتیر، منفی قطب (Anode) قوة العارضة: خوش بیانی، فصاحت۔ عارضة الازياء: درزی کی دکان پر فیشن کے نمونے کے کپڑے پہن کر دکھانے والی ملازمہ (Mannequin, mannekin) عارِضي: اتفاقی، ناگہانی غیر ارادی، نامتوقع، وقتی، کبھی کبھار کا، تقریباتی، مَعْرُوض جمع مَعاريض: بیان، رپورٹ، محضر، محضر نامہ، درخواست جمع مَعْرُوضات: تجاویز، بیانات، پیشکشیں، ٹینڈر، ٹھیکہ لینے کے لئے تخمینے، نمائش میں رکھی ہوئی چیزیں، پیش کردہ، دستاویزات۔ مُعارِض: حریف، مقابل، دشمن، مدمقابل، مخالف، مخالفت کرنے والا، تردید کرنیوالا۔ مُعْتَرِض: آر پار پڑا ہوا یا آر پار چلنے والا، میں سے گزرنے والا، پار جانے والا، چوڑے رخ، پڑا ہوا، حریف، دشمن، مخالف، مخالفت کرنے والا، تردید کرنے والا، برق گزار یا غیر حرگزار (برقیات) جملة معترضة: جملہ معترضہ Parenthesis یا parenthetical clause عُرضي: فوجی کیمپ۔ (ترکی لفظ اردو سے)

عرط: عَرَطَ ـُ عَرْطًا عِرضَ فلان: کی غیبت کرنا۔ اِعْتَرَطَ عِرضَ فلان: کی غیبت کرنا۔ الرَّجُلُ: ملک میں دور چلا جانا۔ العُرَيْط وامُّ عُرَيْط وامّ العُرَيْط (ح): بچھو۔

عرف: عَرَفَ ـِ عِرْفَةً و عِرْفَانًا و عِرِفَّانًا و مَعْرِفَةً الشيءَ: کو جاننا، پہچاننا۔ بِذَنْبِه: اپنے گناہ کا اعتراف کرنا۔ ـُ عَرَافَةً على القوم: چودھری ہونا، قوم کا انتظام کرنا، قوم کی سیاست کرنا۔ عَرُفَ ـُ عَرَافَةً: چودھری ہونا۔ عَرَّفَهُ الأمرَ: کو معاملہ سے آگاہ کرنا۔ ـه بفلان: کا سے تعارف کرانا۔ الحُجّاجَ: حاجیوں کا عرفہ میں ٹھہرنا۔ الضالَّةَ: گمشدہ چیز کو ڈھونڈنا۔ الاِسْمَ: نکرہ اسم کو معرفہ بنانا۔ اَعْرَفَ فلانًا: کو خطا پر مطلع کرکے معاف کر دینا۔ تَعَرَّفَ الاسمُ: نکرہ اسم کا معرفہ ہو جانا۔ الشيءَ: کو طلب کرنے کے بعد پہچان لینا۔ الضالَّةَ: گمشدہ کو تلاش کرنا۔ بفلان: سے آشنا ہونا۔ الیه: کو اپنے سے واقف کرانا۔ تَعارفَ القومُ: ایک دوسرے کو پہچاننا۔ اِعْتَرَفَ بالشيء: کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا۔ الشيءَ: کو پہچاننا۔ اِعْتَرَفَ به: کا ثبوت دینا۔ الرجُلَ: سے دریافت کرنا۔ الیه: کو اپنے نام و مرتبہ سے آگاہ کرنا۔ الضالَّةَ: گمشدہ چیز کے اوصاف بتانا اور یہ بتانا کہ وہ اس کا مالک ہے۔ اِسْتَعْرَفَ الشيءَ: کو پہچاننا۔ الی فلان: واقفیت کے لئے نسبت بیان کرنا۔ العارف: فا کہتے ہیں۔ هذا أمر عارف: یہ معاملہ معروف ہے۔ العارِفة جمع عَوارِف: عارف کا مونث۔ العُرْف: اقرار، اعتراف کا اسم، (کہتے ہیں۔ له عليَّ ألفٌ عُرْفًا: میرے اوپر اس کے ہزار احسان ہیں، مجھے ان کا اقرار ہے)، تسلیم شدہ باتیں، اصطلاح۔ عُرْفُ اللسان: لغوی اصطلاح۔ عُرْفُ الشرع: شرعی اصطلاح۔ العُرْفة جمع عُرَف: دو چیزوں کی درمیانی حد۔ العِرْفة: دریافت، سوال عَرَفة: مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام یوم عَرَفة: ذی الحجہ کا 9 واں دن عَرَفات: مکہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑی جو حاجیوں کے لئے نویں تاریخ ذی الحجہ میں وقوف کرنے کی جگہ ہے۔ نسبت کیلئے عَرَفي آتا ہے۔ العِرافة: نجومی کا پیشہ۔ العَرّاف: نجومی، ماضی اور مستقبل کے بارے میں بتانے والا، طبیب العِرْفان و العُرُفّان: اقرار کرنیوالا، بتانے والا۔ العَرُوف جمع عُرُف: جاننے والا۔ العَرُوفة: عالم۔ العَرِيف جمع عُرَفاء: عالم، جاننے والا، اپنے ساتھیوں کا تعارف کرانے والا، قوم کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔ نقیب، اور یہ رئیس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ (اع): سارجنٹ Sergeant، کارپورل Carporal، عَرِيفُ المكاتب: مانیٹر۔ امرٌ عَرِيفٌ: امر معروف۔ الأعرف: اسم تفضیل، زیادہ جاننے والا، الاعتراف (مص): پادری کے سامنے اقرار گناہ۔ المَعْرَف و المَعْرِف: معارف کا واحد انسان کے چہرہ اور چہرہ کے حدود خال، کیونکہ انسان چہرہ سے پہچانا جاتا ہے۔ المعارِف: چہرے کے محاسن (کہتے ہیں۔ هم غُرٌّ المَعارِف شُمُّ المَراعِف: وہ روشن چہروں اور اونچی ناکوں والے ہیں) علوم۔ مَعارِف الرجُلِ: شناسا لوگ، جان پہچان والے، کہتے ہیں۔ هو من المَعارِف: وہ مشہور لوگوں میں سے ہے۔ المَعْرِفة (مص): حقیقت کو پالینا المَعْرُوف: مشہور۔ المُعْتَرِف (فا): ایمان کا اقرار کرنے والا۔

۲۔ عَرَفَ ـِ عِرْفَةً و عِرْفانًا و عِرِفّانًا و مَعْرِفَةً هُ: کو بدلہ دینا۔ العُرْف: بخشش بھلائی، عطیہ۔ العِرفان (مص): مہربانی۔ العارِفة جمع عَوارِف: معروف، عطیہ۔ المعروف: خیر، احسان، رزق۔

۳۔ عَرَفَ ـِ عِرْفةً و عِرْفانًا و عِرِفّانًا و مَعْرِفةً للأمر: پر صبر کرنا۔ اِعْتَرَفَ: ذلیل ہونا، تابعدار ہونا۔ للامر: پر صبر کرنا۔ العُرْف و العِرْف: صبر۔ العارِف (فا): صبر کرنے والا۔ العَرُوف: صبر کرنے والا۔

۴۔ عَرَفَ ـُ عَرْفًا الفرسَ: گھوڑے کے ایال کاٹنا۔ أَعْرَفَ الفرسُ: گھوڑے کا لمبے ایال والا ہونا۔ اِعْرَوْرَفَ الفرسُ: گھوڑے کا ایال والا ہونا۔ الراكبُ الفرسَ: گھوڑے کی ایال پر سوار ہونا۔ النخلُ: درخت خرما کا گنجان ہونا۔ الرجُلُ: درخت خرما پر چڑھنا۔ البحرُ: سمندر کی موجیں بلند ہونا۔ الدمُ: خون جھاگ والا ہونا۔ العُرف جمع

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عُرف و أعْرَاف: ایال، مرغ کی کلغی، سمندر کی لہر، موج، ریت کی بلندی، اونچی جگہ، کہتے ہیں۔ جَـاءَ القومُ عُرُفًا: قوم کے لوگ آگے پیچھے آئے۔ عُرف الدیك (ن): ایک قسم کا پودا۔ العُرُف. ایال: اونچی ریت، اونچی جگہ، العَرْفة: ہوا۔ الأعْرَف: ایال دار (گھوڑا) کلغی دار (مرغا)۔ حَزنٌ أعْرف: بلند جگہ۔ العَرفاء: جمع عُرف اعرف کا مونث۔ (ح): بجو قُلّةٌ عَرْفاء: بلند چوٹی، الأعراف: بہشت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ایک قسم کے کھجور کا درخت۔ أعْرافُ الریاح و السحاب: ابتدائی ہوائیں۔ بلند بادل۔ اعرافُ الحجاب او الرمل: حجاب اور ریت کی بلندیاں۔ الاعراف: قرآن مجید کی ایک سورۃ کا نام۔ المعْرَفة جمع مَعارف: ایال کے اگنے کی جگہ۔

۵۔ عَرف ـُ عَرْفًا و عَرافَةً: بہت خوشبو لگانا، کی خوشبو عمدہ ہونا۔ عَرِف ـَ عَرَفًا: خوشبو چھوڑ دینا۔ عَرّف الشیءَ: کو خوشبودار کرنا۔ ـــ الطعامَ: سالن زیادہ کرنا۔ العَرْف (مص): بو۔ اکثر اس کا استعمال خوشبو کے لئے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ما أطْیَبَ عَرْفَهُ: اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے۔ ضرب المثل ہے۔ لایعجز مَسْكُ السَّوء عن عَرْف السَّوء: ردی کھال بھی بو سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ مثل کمینہ شخص کے متعلق ہے جو برے کام کرتا رہتا ہے۔ ارضٌ معروفة: خوشبودار زمین۔

۶۔ عُرِف الرجلُ: کی ہتھیلی میں پھوڑا نکل آنا، صفت معروف العُرْفة (طب): ہتھیلی کا زخم۔

۷۔ إعْرَوْرَف لِلشر: برائی کے لئے آمادہ ہونا۔

۸۔ العُرْفج جمع عَرافِج (ن): ایک پودا جو نرم زمین میں اگتا ہے۔ العَرافِج: وہ ریت جس میں راہ نہ ہو۔

○ عرف ـِ مَعْرِفةً و عِرْفانًا ہ/ ہ کو جاننا، پہچاننا، دیکھ لینا، سمجھ لینا۔ ـــ ہ: سے واقف ہونا، آگاہ ہونا، شناسا ہونا، کو دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ ـــ ہ ب: کو صحیح تسلیم کرنا، قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ ـــ ہ ہ کو بطور...... تسلیم کرنا۔ ـــ ہ ل: میں کی گنجائش کو مد نظر رکھنا۔ ـــ ہ کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔ ـــ ہ/ ہ من: کو میں سے اختیار کرنا۔ عُرِف ب: کے نام سے جانا جانا، معروف ہونا، عرف حَقَّ المعرفة: کا یقین کرنا، کے بارے میں پورا یقین ہونا۔ عَرَفَتْ له الجمیل: وہ اسکی شکرگزار، ممنون یا احسان مند یا متشکر تھی، وہ اسکی خدمات کی قدردان تھی۔ اس نے اس کی خدمات کو ممنونیت سے تسلیم کیا۔ عَرّف ہ ہ کو کا اعلان کرنا، کو سے مطلع کرنا، کو سے آگاہ کرنا۔ ـــ ہ ب/ الی: کو سے متعارف کرنا، کا سے تعارف کرانا، کی سے ملاقات کرانا۔ ـــ ہ ب: کسی کو کسی کے روبرو پیش کرنا۔ ـــ ہ: کی تعیین کرنا، کو معین کرنا، ممیز کرنا، واضح کرنا، کی تعیین کرنا، کی تفصیلات دینا، کی صراحت کرنا۔ ـــ ہ: (اسم) کو معرفہ بنانا۔ ـــ ہ: پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، توبہ کرنا، کا اعتراف گناہ سننا۔ تَعرَّف ب / الی او علی: سے آگاہ ہونا، کا شناسا ہونا۔ ـــ الی / ب: سے ملنا۔ ـــ الی: کو اپنی شناخت بتانا، پر اپنا آپ ظاہر کرنا۔ ـــ الی/ علی: سے آگاہ ہونا، واقف ہونا۔ ـــ ہ: پر خوب غور کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، کا کھوج لگانا، کا سراغ لگانا کو دریافت کرنا، تَعارَف: ایک دوسرے سے واقف ہونا، ـــ ب: سے آگاہ ہونا۔ ـــ ہ: کے بارے میں معلوم کرنا۔ إعْتَرف ہ: کا اعتراف کرنا، کو تسلیم کرنا، کا اقبال کرنا۔ ـــ ب: کو تسلیم کرنا قبول کرنا، ماننا۔ ـــ ب ل: کی وصولی کی کو اطلاع دینا۔ ـــ: اعتراف گناہ کرنا۔ ـــ بالجمیل: شکرگزار ہونا۔ عَرْف: خوشبو۔ عُرْف: احسان، مہربانی، رسم، رواج، محاورہ الفاظ کا استعمال، روایت، دستور کا قاعدہ، عادت، ریت، رسم، قانون رواج جمع أعْراف: کلغی، ایال، فی عُرفِهِ: اس کی عادت کے مطابق، اس کی رائے میں، جیسا کہ اس کی عادت تھی۔ العُرْف السیاسی: پروٹوکول Protocol۔ عُرْفی: روایتی، رواجی، رسمی، تقلیدی، معمول کے مطابق، حسب عادت، معمولاً، عام عادی، نجی، غیر سرکاری، الحکمُ العُرفی: مارشل لاء۔ الاحکام العُرفیة: مارشل لاء۔ مَحْكَمةٌ عُرْفِيَّة: کورٹ مارشل (Court martial) عَریف ب: سے واقف، آگاہ۔ ـــ: ماہر، اتھارٹی، سپیشلسٹ، معاون استاد، مانیٹر (Monitor)، سارجنٹ، کارپورل (Sergeant Corporal) رئیسُ العُرَفا: ماسٹر سارجنٹ (Master Sergeant) نائب عریف: کارپورل (Corporal) جمع عُرَفاء: استاد۔ عَرّاف: غیب دان، نجومی، جوتشی، قسمت کا حال بتانے والا۔ عَرّافة: قسمت کا حال بتانے والی۔ عِرافَة: قسمت کا حال بتانے والے کا پیشہ، غیب دانی، جوتش، عَرَفات: ایک پہاڑ اور ملحقہ میدان کا نام جو مکہ معظمہ سے چار گھنٹوں کے فاصلہ پر واقع ہے، جہاں حاجی لوگ ذوالحجہ کا نواں دن گزارتے ہیں۔ عِرْفان: علم اور ادراک، قوت مدرکہ، عِرفان الجمیل: احسان مندی، [illegible] احسان مندی، شکرگزاری، تشکر، المعارف: ثقافتی امور، تعلیم۔ بمعرفة: بذریعہ مع المعرفة: جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ، وزیر المعارف العمومیة: وزیر تعلیم۔ لم یکن معرفةً فی قومه: وہ اپنے لوگوں میں غیر معروف تھا۔ مَعارف: چہرہ، صورت، شکل، حلیہ، تیور، چہرہ مہرہ۔ بطاقة التعریف: شناختی کارڈ۔ تَعریفة: اطلاع، اعلان۔ تعریفات و تعاریف: نرخنامہ، محصول نامہ، درآمد و برآمد کا تامینی محصول اعترافًا ب: کی قدر افزائی کے طور پر۔ ابو الاعتراف: اعتراف گناہ سننے والا پادری۔ سِرُّ الاعتراف: کفارہ کی رسم۔ مُعَلِّمُ الاعتراف: اعتراف گناہ سننے والا پادری۔ من الاعتراف ان: یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ، مسلم طور پر عارف: صاحب نظر ماہر، عظیم فنکار، عارِفة: دانا، فرزانہ، حکیم، کسی گاؤں یا قبیلہ کا مردِ دانا۔ بالمعروف یا بمعروف: (کامل) انصاف سے، مناسب شائستگی کے ساتھ، دوستانہ طور پر، آشتی سے، ناکر المعروف: ناشکرا، احسان ناشناس۔ المعروف ان: یہ بخوبی معلوم ہے کہ، جیسا کہ اچھی طرح معروف ہے۔ جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مُتعارَف یا متعارف علیه: عام، حسب عادت، حسب معمول، رواجی، عام جو ہر ایک جانتا ہے، معمولی، غیر اہم، فرسودہ، بہت ہی عام، مبتذل، معمولی، پیش پا افتادہ۔ مُعْتَرف به: منظور شدہ، مقبول، تسلیم شدہ، لائسنس یافتہ، بااختیار۔

عرق ۱۔ عَرَق ـُ عَرْقًا و مَعْرَقًا العظمَ: ہڈی کے اوپر سے سارا گوشت کھا جانا۔ کہتے ہیں۔ عَرَقَتْهُ الخطوبُ: مصائب نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عُرِق عَرْقًا: کم گوشت ہونا۔ تَعرَّق العظمَ: دانتوں سے کاٹ کاٹ کر ہڈی سے گوشت اتار لینا۔ کہتے ہیں تَعَرَّقَتْهُ الخطوبُ: مصائب نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ إعْتَرق العظمَ: ہڈی کا سارا گوشت کھا جانا۔ العَرْق (مص): جمع عِراق و عُراق: ہڈی جس سے بیشتر گوشت اتار لیا گیا ہو۔ العَرْقة: گوشت کا ٹکڑا۔ العُراق: ہڈی جس کا گوشت کھا لیا گیا ہو۔ العَوارق: داڑھیں۔ المُعْرَق: چھری وغیرہ جس سے ہڈی کا گوشت اتاریں۔ رَجُلٌ مُعَرَّقٌ و مَعْرُوقُ العِظام: دبلا آدمی۔

۲۔ عَرَق ـُ عَرْقًا و مَعْرَقًا الطریقَ: راستہ طے کرنا۔ ـــ عَرْقًا و عُروقًا فی الأرض: زمین میں سفر کرنا۔ عَرَّقَ الشجرُ: درخت کا لمبی جڑوں والا ہونا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عَرُقَ الرجلُ خاندانی شریف ہونا۔ ــ الشجرُ درخت کا لمبی جڑوں والا ہونا۔ تَعَرَّقَ و اعْتَرَقَ و اسْتَعْرَقَ الشجرُ درخت کا لمبی جڑوں والا ہونا۔ العِرق جمع عُرُوق و أعْرَاق و عِرَاق ہرچیز کی اصل، دشوار گزار پہاڑ، چھوٹا پہاڑ (ضد)، دودھ، ریت کی باریک اور لمبی دھاری۔ ــ من البدن: رگ، داءُ عِرْقِ النساء (طب) اعصابی درد جوران سے شروع ہوکر گھٹنے یا قدم تک پہنچتا ہے۔ العَرَق: دودھ، پہاڑ کے راستے، اونٹوں کے ایک قطار میں چلنے کے نشان (کہا گیا: وقد نسجن فی الفلاة عَرَقاً: اونٹوں نے وسیع بیابان میں تیز تیز چل کر نشان بنادیے)، دوڑ، کہتے ہیں۔ جری الفرسُ عَرَقًا او عرقَين: گھوڑا ایک یا دو مرتبہ دوڑا۔ العَرْقَة: پہاڑ کے راستے۔ العِرْقة جمع عِرَق و عِرْقات و العَرْقاة و العِرقاة: اصل، درخت کی جڑ کا ریشہ۔ الأعْرَق: صاحب اصل، کہتے ہیں۔ هو اعْرَقُ منك فی كذا: وہ فلاں چیز میں تم سے زیادہ صاحب اصل ہے۔ العَرِيق و المُعْرِق: جس کی شرافت یا کمینہ پن میں اصل ہے۔ غلام عَرِيق: دبلا پتلا لڑکا۔

۳۔ عَرِقَ ـــ عَرَقًا: پسینہ آنا صفت۔ عَرْقان ـــ الحائطُ: دیوار تر ہونا۔ عَرَّقَ ہٗ کو پسینہ لانا۔ ـــ الخمرَ: شراب میں تھوڑا سا پانی ملانا۔ ـــ الإناءَ: برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالنا۔ ــ التِين الجافَّ خشک انجیر کو گرم پانی سے ابالنا۔ تاکہ محفوظ رکھا جاسکے۔ أعْرَقَ الخمرَ و الإناءَ: شراب اور برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالنا۔ تَعَرَّقَ الخمرَ: شراب میں تھوڑے سے پانی کی ملاوٹ کرنا۔ اِسْتَعْرَقَ: پسینہ کے لئے گرمی میں بیٹھنا۔ العِرْقُ جمع عُرُوق و أعْراق و عِراق تھوڑا سا پانی، جسم۔ العَرَق (مص): پسینہ، دیوار کی نمی، شراب، (انگور وغیرہ کی)۔ ــ من التَّمر: کھجور کا رس، عَرَقُ الخِلال: دوست کا عطیہ کہتے ہیں۔ لقيتُ منه عَرَقَ القِرْبه و تَجَشَّمتُ اليك عَرَقَ القِربة: شدت اور مشقت سے کنایہ مطلب یہ کہ میں نے اس سے مشقت اٹھائی جس طرح مشک اٹھانے والا اٹھاتا ہے کہ اس کو بوجھ کی وجہ سے پسینہ آجاتا ہے۔ میں نے تمہاری وجہ سے بڑی مصیبت جھیلی۔ العَرِق و العُرَقة: جس کو بہت پسینہ آئے۔ العَرْقة اسم مرہ۔

۴۔ عَرِقَ ـ عَرَقًا الرجلُ سست ہونا۔

۵۔ أعْرَقَ الرجلُ عراق میں جانا، اِعْتَرَقَ القومُ عراق میں جانا۔ العِراق ایک ملک کا نام۔ ـــ و أعْرِقة و عُرُق و عُرُق: طول میں سمندر کا ساحل۔ العِراقان: کوفہ و بصرہ۔

۶۔ العِرْق جمع عُرُوق و أعْراق و عِرَاق: شور زمین۔ اولاد کثیر۔ العَرَق: دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھروں کی قطار، عام لوگ اسے مدماک کہتے ہیں۔ العَرَقة جمع عَرَقٌ و عَرَقات: دیوار پر پتھروں یا کچی اینٹوں کی قطار گھوڑوں یا پرندوں کی قطار۔ شہتیر، دھنی خیمہ کے اردگرد کا پھندنا۔ العِراق جمع أعْرِقة و عُرُق و عُرُق: پر کا جوف۔ ــ من الدار: گھر کا صحن۔ ــ من الظُفر: ناخن کے آس پاس کا گوشت۔ ــ من الأذن: کان کا گھیرا۔ ــ من النهر: ندی کا کنارہ۔ العُراق: شدید بارش۔ عُرَاقُ الغَيْث: بارش کے بعد نمودار ہونے والی روئیدگی۔ العُرَاقَة: شدید بارش العَرْقاة: ڈول کے منہ کی لکڑی۔ العَرْقُوَة جمع العَرَاقِي: ڈول کے منہ کی لکڑی۔ العَرَقِيَة: عمامہ اور ٹوپی کے نیچے پہنا جانے والا کپڑا۔

۷۔ عَرْقَبَ الرجُلُ حیلہ کرنا۔ تَعَرْقَبَ: حیلہ کرنا، پہاڑی راستوں پر چلنا۔ ــ عن الامر: سے باز رہنا۔ ـــ لخصمه: دشمن کے لئے مخفی طریقہ اختیار کرنا۔ العُرْقُوب جمع عَرَاقِيب: وادی کا موڑ، پہاڑی راستہ، حیلہ، بہانہ۔ عَرَاقِيبُ الأُمُور: مشکل اور بڑے کام۔

۸۔ عَرْقَبَ الدابَّةَ: جانور کی کونچیں کاٹنا، جانور کو کھڑا کرنے کے لئے اس کی کونچیں اٹھانا۔ العُرْقُوب جمع عَرَاقِيب (ع ا): کونچ، ایڑی کے اوپر کا پٹھا۔

۹۔ تَعَرْقَبَ: عرقوب کے مانند ہونا۔ عُرْقُوب: عرقوب ایک شخص کا نام جو جھوٹ اور وعدہ خلافی میں مشہور تھا۔ کہتے ہیں اخلف من عُرقوب: عرقوب سے زیادہ وعدہ خلاف۔ مواعيدُ عُرقوب: عرقوب کے وعدے۔

۱۰۔ عَرْقَصَ الغلامُ لڑکے کا ناچنا۔ ـــ تِ الحيةُ سانپ کا رینگنا۔

۱۱۔ عَرْقَل توسط سے ہٹ جانا۔ ــ الامرَ کو دشوار کرنا۔ ــ عليه الكلامَ: کی بات کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا۔ تَعَرْقَلَ الامرُ پیچیدہ ہونا۔ ہ ـــ الكلامُ: بات کا توڑ مروڑا ہوا ہونا۔ العِرقال: گمراہ، کج رو۔ العَرَاقِيل: مصائب۔ عَرَاقِيل الأُمور: دشوار معاملات۔

۱۲۔ العِرْقِيلُ: انڈے کی زردی۔ العَرْقَلی: ناز کی چال۔

○ عَرِقَ ـ عَرَقًا: کو پسینہ آنا۔ عَرَّقَ ہٗ کو پسینہ دلانا، کو پسینہ آنے دینا، کا پسینہ بڑھانا۔ ــ ہٗ (مشروب) میں پانی ملانا، کو پانی ملا کر ہلکا کرنا۔ ــ کا جڑ پکڑنا، کی جڑیں گہری ہونا۔ ــ ھ: پرابری لگانا۔ أعرق کا جڑ پکڑنا، اگنے لگنا، جم جانا، مستحکم ہونا۔ تَعَرَّقَ: جڑ پکڑنا، اگنے لگنا، جم جانا مستحکم ہونا، عِرْق جمع عُرُوق: جڑ (پودے کا) تنہ، (پتے کی) ڈنڈی، رگ، خاندانی، موروثی یا وراثتی مزاج، طبیعت افتادِ طبع، میلان، نسل، اصل، پشت، پیڑھی، عِرق سُوس: ملٹھی، طِيب العِرق: شریف النسل۔ طَيِّب العِرق: شریف النسل، (اعلیٰ) خاندانی العِرقُ دَسَّاس: خون بتائے گا۔ ضرب فيه بعرق: میں حصہ دار ہونا، میں شریک ہونا۔ عَرَق: پسینہ۔ عَرَق القِربة: مشقتیں، مشقت، عَرَاقة: جڑوں کا گہرا ہونا۔ قدیم جدی سلسلہ، قدیم خاندان۔ عراقة فی النسب: عالی خاندان، عريق: گہری جڑوں والا۔ عريق فی القِدَم: قدیم، صدیوں کا، صدیوں پرانا، من عائلة عَرِيقة: ایک قدیم اور معزز خاندان کا عريق النسب: عالی خاندان کا، خاندانی۔ أعْرَق: زیادہ گہری جڑوں والا۔ مَعْرُوق: پتلا دبلا، نحیف نزار (چہرہ، ہاتھ وغیرہ)۔ مُعَرِّق: پسینہ زیادہ کرنے والا۔ پسینہ آور۔ مُعْرِق فی القِدَم: بہت قدیم، صدیوں کا، صدیوں پرانا، عَرْقَبَ ھ: جانور کی کونچیں کاٹنا۔ عُرْقوب: ایک مشہور جھوٹ بولنے والا۔ اكذب من عرقوب: عرقوب سے بھی بڑھ کر جھوٹا۔ عُرقوبی: جھوٹا، فریبی (وعدہ)۔ عَرْقَلَ ہٗ / ھ کو مشکل بنانا، پیچیدہ کرنا، روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، روڑا اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا، کو دیر لگانا، میں تاخیر کرنا، دیر کرانا، کو روکے رکھنا۔ ــ ھ کو ضبط کرنا، قرق کرنا، کو باڑے میں بند کرنا۔ تَعَرْقَل: مشکل ہونا، سنگین ہونا، پیچیدہ ہونا، رکنا۔ موخر ہونا۔ عَرْقَلة: روکنا، روڑے اٹکانا، راہ میں حائل ہونا، جمع عَرَاقيل: رکاوٹ، مشکل۔

عرك ۱۔ عَرَكَـ ـُ عَرْكًا الاديمَ: چمڑے کو ملنا۔ ــ الشيءَ: کو رگڑ رگڑ کر مٹادینا۔ ــ ہُ الدهرُ: زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنادینا کہتے ہیں۔ عَرَكَ الأذى بجنبه: اس نے مشقت اٹھائی۔ عَرِكَ ـ عَرَكًا بختی سے حملہ آور ہونا۔ صفت عَرِك۔ عَارَكَ مُعَارَكَةً و عِراكًا: سے لڑنا اور مقابلہ کرنا۔ کہتے ہیں۔ أوردَ ابلَهُ عِراكًا: وہ سارے اونٹوں کو پانی پر لایا۔ تَعَرَّكَ الشيءُ: ملا جانا۔ تَعَارَكَ الرجلان: آپس میں لڑنا، إعْتَرَكَتِ الابلُ فی الوِرد: اونٹوں کا گھاٹ پر بھیڑ کرنا۔ ــ القومُ: لوگوں کا باہم قتال کرنا، آپس میں لڑنا، جنگ کرنا۔ ــ الناسُ فی المعركة والخصومة: لوگوں کا میدان جنگ میں قتل وقتال کے لئے پل پڑنا۔ ــ الرجالُ فی الحرب: جنگ میں انبوہ کرنا اور ایک

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دوسرے کو رگڑنا۔ العَرْكة اسم مرة کہتے ہیں۔ لقیتُهُ عَرْكَةً و عَرَكاتٍ میں اس سے ایک بار اور بار بار ملا۔ العُرَكَةُ مشقت برداشت کرنے والا۔ رمل عَرِيك. ملی ہوئی جمع شدہ ریت۔ العَرِيكَة جمع عَرَائِك. کوہان، نفس، کہتے ہیں۔ فلانٌ لَيِّنُ العريكة: وہ نرم خو ہے۔ هو شديدُ العَريكة: وہ سخت مزاج ہے۔ المُعَارِك (فا): لڑنے والا، جنگجو، جنگ میں سخت قتال کرنے والا، المَعْرَك و المَعْرَكة و المَعْرُكة جمع مَعَارِك: جنگ، میدان جنگ۔ المُعْتَرَك: میدان جنگ۔ مُعْتَرَكُ المنايا: ساٹھ ستر کے درمیان انسانی عمر۔ ماءٌ مَعْرُوك. پانی جہاں بھیڑ ہو۔ رملٌ مَعْرُوك: ایک دوسرے میں داخل جمع شدہ ریت۔

۲۔ عرك ـ عَرْكَات الماشيةُ النباتَ: جانوروں کا ساری نباتات کو کھا جانا۔ ـــ الماشيةُ الارضَ: جانوروں کا زمین کو چارہ سے خالی کر دینا۔ ارضٌ مَعْرُوكَةٌ وہ زمین جسے جانوروں نے چر کر خالی کر دیا ہو۔

۳۔ العَرَك و العَرَك. آواز، العَرَكِي جمع عَرَك و جج عُرُوك: مچھلی کا شکاری۔ اس لئے ملاحوں کو عَرَك کہا جاتا ہے۔

۴۔ عَرْكَسَ الشيُّ: تہ بہ تہ ہونا۔ ـــ الشيَ: کو تہ بہ تہ کرنا۔ إعْرَنْكَسَ جمع ہونا، تہ بہ تہ ہونا۔ ـ الشَعْرُ. بالوں کا سخت سیاہ ہونا۔

◌ عَرَكَ ـ عَرْكًا ہ کو رگڑنا، مانجھنا، صیقل کرنا۔ ـ ہ (ریڈیو وغیرہ کے) لٹو، بٹن گھمانا، کو مطابق یا موافق کرنا۔ ـــ ہ کو تباہ و برباد کرنا، کو سخت نقصان پہنچانا، عَرِكَ ـ عَرَكًا: لڑائی میں قوی ہونا، سخت لڑنے والا، جنگجو، یا نبرد آزما ہونا۔ عارَكَ ہ کے ساتھ لڑنا، جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، مقابلہ کرنا۔ تعَارَكَ: لڑائی میں مشغول ہونا، ایک دوسرے سے قتال کرنا۔ اعْتَرَكَ بمعنی تعارك۔ عَرْك: (مصائب جھیل کر حاصل کیا ہوا) تجربہ۔ عَرْكَة لڑائی، جدوجہد، جنگ، مقابلہ عَرِيكة طبع، مزاج، افتادِ طبع، طبیعت، مَعْرَكة و مَعْرُكة جمع مَعَارِك: میدان جنگ، لڑائی۔ عِرَاك: جدوجہد، لڑائی، قتال، مقابلہ، جھگڑا۔ مُعْتَرَك: میدان قتال، میدان جنگ۔

عرم: ا۔ عَرَمَ ـِ عَرْمًا العظمَ: ہڈی سے گوشت اتارنا۔ ـــ الصبيُّ أُمَّهُ: بچے کا ماں کا دودھ پینا ـــ الإبلُ الشجرَ: اونٹوں کا درخت کے پتے کھانا۔ تَعَرَّمَ العظمَ: ہڈی سے گوشت اتارنا۔ إعْتَرَمَ الصبيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ: بچے کا ماں کے پستان کو چوسنا۔

۲۔ عَرَمَ ـِ عُرامًا: متشدد ہونا، حد سے تجاوز کرنا۔ ـ عَرْمًا الكتابَ: کتاب کی جلد بندی کرنا۔
عَرِمَ ـَ و عَرُمَ ـُ عَرَامَةً: متشدد ہونا، حد سے نکلنا۔ عَرَّمَ الترابَ: مٹی کا ڈھیر بنانا۔ عَرَّمَ فلانٌ: تکبر سے پھولنا۔ صفت۔ مُعَرَّم (سریانی لفظ) یومٌ عارِمٌ: نہایت ٹھنڈا دن۔ العَرَم و العُرْمَة و العَرَمَة: گیہوں کا ڈھیر۔ العَرِمة جمع عَرِم: وادی کے عرض میں بنا ہوا پشتہ۔ شدید بارش۔ العُرام من الجيش. فوج کی تیزی و کثرت۔ العَرَمْرَم سخت، عظیم لشکر۔

۳۔ عَرَمَ ـِ عَرْمًا فلانًا: کو تکلیف پہنچانا۔ ـــ عُرامًا و عَرِمَ ـَ عَرُمَ ـُ عَرَامَةً: شوخ ہونا، بدخلق ہونا، خوش ہونا، خراب ہونا صفت۔ عارِم و عَرِم۔ تَعَرَّمَ عليها پر بہت زیادہ خوش ہونا اور اکڑنا۔ إعْتَرَمَ الفرسُ: گھوڑے کا دور دور قدم رکھنا اور منہ زور ہونا، جھکنا۔ العَارِم (فا) جمع عَرَمَة م عَارِمَة جمع عَوَارِم و عَارِمات بدخلق، موذی۔ العُرام من الرجُلُ: بدخلقی، ایذا، کہتے ہیں۔ به شِرَّةٌ و عُرام: اس میں ایذا دہی اور بدخلقی ہے۔

۴۔ عَرَّمَ الشيَ: کو خلط ملط کرنا۔ العَرَم و العُرْمَة: سیاہی سپیدی ملی ہوئی، چھوٹے چھوٹے سیاہ و سپید نقطے۔ الأعْرَم جمع عُرمان و جج عَرَامين: رنگ برنگ، غیر مستقل، جزوی طور پر رنگدار، داغ دھبے دار، بھیڑ یا بکریوں کا ریوڑ، العَرْماء: اعرم کا مونث (ح): چتی دار سانپ۔

۵۔ أعْرَمَهُ: پر ایسی بات کی تہمت لگانا جو اس نے نہیں کی۔

۶۔ العَرَم و العُرام: ہانڈی کا میل۔ العَرِيم جمع عُرْمان: مصیبت۔ الأعْرَم جمع عُرمان و جج عَرَامِيس. غیر مختون۔

◌ عَرَّمَ ہ کا ڈھیر لگانا۔ إعْتَرَمَ: برا ہونا، ضدی، سرکش، ہٹ دھرم، ہٹیلا، ہٹ کا پکا، یا منہ زور ہونا، خودسر ہونا، عَرِم. برا، مضبوط، قوی، سخت، بے قابو، متشدد، شدید، قوی، طاقت ور، خوفناک، ہولناک، دہشت ناک، پشتہ، بند، جیشٌ عَرِم: بڑی فوج، عُرام: برائی، بدخلقی، تشدد، سختی، شدت، سیلٌ عُرام: بڑی مقدار، ہولناک مہیب سیلاب۔ عَرَمة جمع عَرَم: ڈھیر بیشتر حصہ، بڑی مقدار، انبوہ، ازدہام ـــ عارِم: بڑا، طوفانی، طوفان خیز، سخت، متشدد، قوی، ہولناک، مہیب، عظیم، بہت بڑا، بہت وسیع، بہت ضخیم، عَرَمْرَم. قوی، سخت، متشدد۔ جیشٌ عَرَمْرَم: بہت بڑا لشکر۔

عرن ا۔ [illegible]
رکھنا ـــ البعيرَ: اونٹ کی ناک میں لکڑی ڈالنا، عَرَّنَ الرمحَ: نیزے میں میخ لگانا۔ العِرَان: اونٹ کی ناک میں ڈالی جانے والی لکڑی، نیزے کی میخ۔ العِرنين جمع عَرَانين: پورا ناک، ناک کا پورا یا سخت حصہ، سردار۔ ـ من كل شيء: ہر چیز کا پہلا حصہ۔

۲۔ عَرَنَ ـِ ـُ علي الشيء: کا عادی ہونا۔

۳۔ عَرَنَ ـِ ـُ عِرَانَات الدارُ: گھر کا دور ہونا۔ العِران: دوری۔

۴۔ عَرِنَ ـَ عَرَنَات الدابةُ: جانور کو عرنہ کی بیماری لگنا۔ صفت عَرُون و عَرِنَة: (مونث کیلئے) اور عَرِن (مذکر کے لئے)۔ العَرَن و العِران و العُرْنَة (طب): بیماری جس میں جانور کے پچھلے پاؤں کے بال گر جاتے ہیں یا اس کے اگلے پچھلے پاؤں کی پھٹن۔

۵۔ أعْرَنَ الرجلُ: ہمیشہ گوشت کھانا۔ العَرَن: پکا ہوا گوشت۔ دھواں۔

۶۔ العِران: بجو کا بھٹ، ہمسر، لڑائی، العَرِين: آواز، شکار، عزت، ـــــ جمع عُرُن: گھر کا صحن، درختوں کا جھنڈ، جھاڑی۔ ـــ و العَرِينة جمع عَرَائِن: شیر، بجو، سانپ اور بھیڑیے کی پناہ گاہ۔

۷۔ العِرناس جمع عَرَانِيس (ح): کبوتر جیسا ایک پرندہ، پہاڑ کا باہر نکلا ہوا حصہ۔ لکڑی یا لوہے کی چیز جس پر عورت روئے کے گالے کو لپیٹ کر کاتتی ہے۔ عرانيس الذرة: جوار بھٹے۔ عام لوگ اسے عَرنوس کہتے ہیں۔

◌ عَرِين: جھاڑی، بن، شیر کا بھٹ، عَرِينة جمع عَرَائِن: جنگلی جانور کا بھٹ، عِرْنِين جمع عَرَانِين: ناک کا بالا حصہ، ناک کا بانسہ۔ عِرْنَاس جمع عرانيس: سلائی دار پونی۔ عِرناسُ ذَرة بھٹی (شام میں)۔

عرا: ا۔ عَرَا ـُ عَرْوًا فلانًا امرٌ: کو کوئی بات پیش آنا۔ ـــ فلانًا: عطیہ مانگنے کے لئے کے پاس جانا۔ صفت فاعلی عار، صفت مفعولی مَعْرُوّ۔ عُرِيَ: کو بخار کی سردی لگنا۔ صفت عارٍ جمع عُراة و مَعْرُوّ ـــ الرجُلُ: خوف سے کپکپانا۔ إعْتَرَى اعتراءً فلانًا: عطیہ مانگنے کیلئے کسی کے پاس جانا۔ ـــ ہُ امرٌ کو لاحق ہونا۔ العُرَواء: بخار کی سردی۔

۲۔ عَرَا ـُ عَرْوًا القميصَ: کرتے میں کاج بنانا۔ عَرَّى و اعْرَى القميصَ: کرتے میں کاج بنانا۔ العُرْوَة جمع عُرَى: گنجان درخت۔ قابل اعتماد چیز، کہتے ہیں۔ ألقى عليه العُرَى: اس نے فلاں کو معاملہ سپرد کیا۔ وہ درخت جس کے پتے سردیوں میں نہیں گرتے اور لوگ گھاس نہ ملنے کی وجہ سے ان پر

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بھروسہ کرتے ہیں۔ نفیس مال۔ ۔ الابریق ونحوہ: چھاگل اورلوٹے کا دستہ۔ ۔ والعُرَی والعِرْیُ من الثوب: کاج۔

٣۔ أَعْرَی صاحبَہ: اپنے ساتھی کو چھوڑ دینا۔ العِرو جمع أعـراء: وہ شخص جو معاملات کا اہتمام نہ کرے۔ کہتے ہیں۔ انا عِروٌ من کذا: میں فلاں چیز سے خالی ہوں۔ العُرْوَة: کہتے ہیں۔ انا عُروةٌ منہ: میں اس سے خالی ہوں۔

٤۔ العِرْو جمع اَعْراء: گوشہ، لوگوں کا گروہ، کہتے ہیں۔ بہا اعراءٌ من الناس: وہاں لوگوں کے کئی گروہ ہیں۔

○ عَرَا ـُـ عَرْوًا و اِعْتَرَی ہ: کو گرفت میں لینا، ایذا دینا، تکلیف میں ڈالنا، کے پاس آنا، پر آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، کو پیش آنا، پر قبضہ کرنا۔ عُرْوَة جمع عُرًی: کاج، پھندا، کنڈلی، پیچ، پیچا، کنڈل، بل، گھونگر، دستہ (جگ وغیرہ کا)، تعلق، رشتہ، بندھن، عُـری الصداقة: دوستی کے رشتے، تعلقات، تائید، سہارا، آسرا۔ العُرْوَة الوُثقی: مضبوط، قابل اعتماد گرفت، قبضہ، پکڑ، مضبوط رشتہ۔

عری: ا۔ عَرَی ـِـ عَرْیًا ہُ الامرُ: کو معاملہ پیش آنا۔ اِعْرَوری اِعْرِیْرَاءً امراً قبیحًا: برا کام کرنا۔

٢۔ عَرِی ـَـ عُرْیَةً و عُرْیًا و من ثیابہ: اپنے کپڑے اتارنا، ننگا ہونا صفت عَارٍ و عُرْیَان م عَارِیة و عُریانة جمع مذکر عُراۃ جمع مونث عَوارٍ و عاریات۔ ۔ من العیب وغیرہ: عیب وغیرہ سے پاک ہونا، بے عیب ہونا صفت عَرٍ۔ عَرَّی تَعْرِیَةً الرجُلَ الثوبَ و من الثوبِ: کے کپڑے اتار ڈالنا، کو ننگا کر دینا۔ ۔ ہ من الامر: کو سے علیحدہ کرنا، چھڑا لینا۔ ۔ الرجُلَ: کو نظرانداز کرنا، چھوڑ دینا۔ أَعْرَی إعراءً الرجُلَ الثوب و من الثوب: کے کپڑے اتار دینا، کو ننگا کر دینا۔ ۔ الرجُلُ: کھلے میدان میں کھڑا ہونا یا چلنا۔ ۔ فلانًا صدیقہُ: اپنے دوست سے دور ہو جانا اور اس کی مدد نہ کرنا۔ تَعَرَّی تَعَرِّیًا من ثیابہ: اپنے کپڑے اتار ڈالنا، ننگا ہو جانا۔ اِعْرَورَی اعْرِیراءً: تنہا سفر کرنا۔ ۔ الفرسَ: کی ننگی پیٹھ پر سوار ہونا۔ فرسٌ عُرْیٌ جمع أَعْرَاء: بغیر زین کا گھوڑا، ننگی پیٹھ والا گھوڑا، العَرَی: گوشہ، میدان۔ العَراء جمع أَعْرَاء: کھلی فضا جس میں چھپنے کی کوئی چیز نہ ہو۔ العَراة: میدان، صحن۔ لأعْـراء واحد عُـرًی: بے پرواہ لوگ العُـرْیَة ، عرْیَة: ننگا پن۔ العُریان: ننگا، جس نے کپڑے اتار دیئے ہوں۔ عُریان النَجِیّ: جو اپنے بھید کو نہ چھپائے۔ عریاناتُ البزُور (ن): ایک قسم کا پودا۔ المَعْرَی والمَعْرَاة جمع مَعَار: ننگا پن، بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں سے نہ چھپایا جائے جیسے ہاتھ چہرہ وغیرہ۔ المَعَارِی: بچھونے، بنجر مقامات۔

٣۔ عَرِیَ ـَ عُرِیَّ ت اللیلة: رات کا ٹھنڈا ہونا، أعری إعراءً الرجُلُ: کو رات کی ٹھنڈ لگنا۔ العَری: ٹھنڈ، سردی۔ العَرَاة: سردی کی شدت۔ العَرِی: ٹھنڈی یخ ہوا۔ العَرِیَّة جمع عَرَایا: ٹھنڈی یخ ہوا۔

٤۔ عَرَّی تعریة الشیءَ: کو دستہ لگانا کہتے ہیں۔ عرّاہ بعُرًی وثیقة: اس نے اس کو مضبوط دستہ لگایا۔

٥۔ أعْرَی إعْرَاءً فلانا النخلةَ: کو ایک سال کے کھجور کے درخت کا پھل ہبہ کرنا۔ العَرِیّة جمع عَرَایا: کھجور کا درخت جس کا پھل کھالیا گیا ہو۔ کھجور کا درخت جس کے مالک نے دوسرے کو پھل کھانے کیلئے دیدیا ہو۔ کہتے ہیں۔ نخلهم عَرَایا: ان کے کھجور کے درخت ہبہ شدہ ہیں۔ جنہیں وہ دوسروں کو سخاوت کے طور پر دے دیتے ہیں۔ العَارِیَة: ادھار لی ہوئی چیز۔

○ عَرِیَ ـَ عُرْیًا وعُرْیَةً: ننگا ہونا۔ ۔ عن: سے آزاد ہونا، سے بے نقاب ہونا، عری عن (من) ثیابہ: اپنے کپڑے اتار دینا، ننگا ہونا، بے لباس ہونا۔ عری عن کل اساس: بالکل بے بنیاد ہونا۔ عَرَّی ہ: کو برہنہ کرنا، بے لباس کرنا، ۔ ہ کو ننگا کرنا، بے نقاب کرنا۔ سے اوپر کی مٹی یا خس وخاشاک ہٹانا یا دور کرنا۔ ۔ ہ من ثیابہ: کے کپڑے اتروا دینا۔ ۔ ہ من: کو سے محروم کرنا۔ عُری: ننگا پن، برہنگی، بے زین گھوڑا۔ عُرْیة: ننگا پن، برہنگی، عَراء: ننگا پن، برہنگی، کھلی جگہ، کھلا ملک۔ فی العراء: کھلی ہوا میں۔ کھلے آسمان کے نیچے، باہر، گھر سے باہر، میدان میں۔ مسرح فی العراء: اوپن ایئر تھیٹر Open air theater۔ عُرْیان جمع عَرَایا: ننگا، برہنہ، بے لباس۔ عریانٌ مَلْط: بالکل ننگا، مادرزاد برہنہ۔ عُرْیَانِیة: دین عریانی، عریانیت (nudism)۔ المَعَارِی: جسم کے ان ڈھکے حصے جیسے ہاتھ۔ پاؤں، چہرہ، عارٍ: ننگا، برہنہ، بے لباس۔ پابندی سے آزاد، بلا روک ٹوک؛ سے خالی، محروم (عن یا من کے ساتھ) عاری الاقدام: ننگے پاؤں۔

عزّ: ا۔ عَزَّ ـِ عِزًّا و عِزَّةً وعَزَازَةً: معزز وعزیز ہونا، قوی ہونا۔ ۔ عِزًّا علیہ: پر گراں قدر ہونا، سخی ہونا۔ عَزَّزَہُ: کو طاقت ور بنانا، معزز بنانا، کی عزت کرنا۔ أَعَزَّ إعْزَازًا ہُ: سے محبت کرنا، کو عزیز بنانا۔ تَعَزَّزَ قوی ہونا۔ ۔ بہ: پر فخر کرنا۔ اِعْتَزَّ قوی ہونا۔ ۔ بہ: سے اپنے آپ کو طاقت ور سمجھنا، پر فخر کرنا، پر اترانا، کا شرف حاصل ہونا۔ العِزّ: (مصدر) عزت، العَزِیْز جمع عِزَاز و اَعِزّاء و أَعِزَّة: شریف، معزز۔ الأعَز اسم تفضیل، عزیز۔ العُزَّی: اعز کا مونث۔ عزیزہ، شریف۔

٢۔ عَزَّ ـِ عِزًّا و عِزَّةً وعَزَازَةً: قوی ہونا، کمزور ہونا۔ الشیءُ: دشوار ہونا، کہتے ہیں۔ عَزَّ علیّ ان تفعل کذا: مجھ پر یہ بات گراں ہے کہ تم ایسا کرو۔ ۔ ہُ عَزَّاہُ: کو قوی کرنا، طاقت ور بنانا، پر عزت کی کوشش میں غالب ہونا۔ عَزَّزَہُ: کی مدد کرنا۔ عَازَّ مُعَازَّةً ہُ: کا حصول عزت میں مقابلہ کرنا، پر گفتگو میں غالب ہونا۔ أَعَزَّتِ البقَرَةُ: گائے کا وضع حمل دشوار ہونا، کہتے ہیں أُعْزِزْتُ بما أصَابَك: جو تم پر گزری مجھے اس پر تکلیف ہوئی۔ تَعَزَّز لحمُہُ: کے گوشت کا سخت اور ٹھوس ہونا۔ اِعْتَزَّ علی فلان: پر بزرگی جتانا اور غالب آنا۔ اِسْتَعَزَّ علیہ: پر سختی کرنا، غالب آنا۔ کہتے ہیں اِسْتَعَزَّ بحقیّ: وہ میرے اوپر غالب آگیا۔ ۔ اللّٰہُ بفلان: اللہ کا کسی کو موت دینا۔ کہتے ہیں۔ استُعِزّ بالعلیل: کی بیماری کا بڑھ جانا اور اس کی عقل پر غالب آنا۔ رجُلٌ عَزٌّ: طاقت ور آدمی، کہتے ہیں۔ جِیءْ بہ عَزًّا وبَزًّا: جس طرح ہو سکے اسے لے آؤ۔ العِزَّة (مص): مقابلہ حصول عزت میں غالب آنا، غیرت۔ العَزِیز جمع عِزَاز و أعِزّاء وأعِزَّة: قوی، بادشاہ، جس کا حصول دشوار ہو اور کسی سے مغلوب نہ ہو سکے نہ کوئی اسے عاجز کر سکے اور اس جیسا کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک نام، مصر کے حاکم کا لقب۔ العَزّاء: سختی، سخت سال۔ المِعْزَاز: سخت مرض والا۔ المَعْزُوزة: سخت۔

٣۔ عَزَّ ـِ عِزًّا وعِزَّةً و عَزَازَةً الشیءُ: قلیل ہونا، کمیاب ہونا۔ العَزِیز جمع عِزاز وأعِزّاء وأعِزَّة: نادر۔

٤۔ عَزَّ ـِ عِزًّا و عِزَّةً و عَزَازَةً الماءُ: پانی کا بہنا۔ العِزّ: سخت بارش۔ العَزّاء: بڑی بوند کی بارش۔ المَعْزُوزَة: وہ زمین جس پر سخت بارش ہوئی ہو۔

٥۔ العُزَّة (ح): ہرن کا مادہ بچہ۔ العُزَّی: قریش کے ایک بت کا نام (مونث)۔

٦۔ عَزْعَزَہُ: پر غیرت میں غالب آنا۔

○ عَزَّ ـِ عِزًّا و عِزَّةً و عَزَازَةً: طاقت ور، مضبوط یا محترم ہونا یا ہو جانا، نادر، کم یا نایاب ہونا یا ہو جانا، پیارا، دلارا، عزیز، محبوب، محترم، آنکھ کا تارا، قیمتی، گراں بہا ہونا یا ہو جانا (علی کیلئے)۔ عَزَّ علیہ اَن: اسے افسوس ہے کہ...... کے لئے سخت یا مشکل ہونا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ـ علی: کونقصان پہنچانا، تکلیف دینا، کیلئے تکلیف دہ ہونا، پرگراں ہونا۔ عَزَّ ہٗ/ ھ: کومضبوط کرنا، قوی بنانا، کمک پہنچانا، کومستحکم کرنا، کی قلعہ بندی کرنا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا، کو جمانا، ٹھوس بنانا، کوتقویت پہنچانا، سخت کرنا، کوآگے بڑھانا، کابوجھ اٹھانا، کواٹھائے رکھنا، کاسہارا ہونا، کی تائید کرنا، حمایت کرنا۔ ـــ ہٗ: کی عزت کرنا، کااحترام کرنا، کوسرفراز کرنا، کو اونچا کرنا، بلند کرنا، اٹھانا، کومحبوب بنانا، پیارا یا لاڈلا بنانا، کوعزیز رکھنا۔ عَزَّزَ جانبه: کومضبوط کرنا، کمک پہنچانا، کی قلعہ بندی کرنا، کوٹھوس بنانا، جمانا، مستحکم کرنا، کومضبوط طاقت ور بنانا۔ اَعَـــزَّ ہٗ/ ھ: کومضبوط کرنا، طاقت ور بنانا، مضبوط کرنا، کوتقویت پہنچانا، سخت کرنا، سے محبت کرنا، کی عزت کرنا، توقیر کرنا، احترام کرنا، کی قدر کرنا، کو بہت عزیز رکھنا یا جاننا، کومحبوب بنانا۔ تَـعَزَّزَ: مضبوط، طاقت ور، سخت، ٹھوس، مستحکم ہونا یا ہوجانا۔ ـــ ب: پر فخر کرنا، پراترانا۔ اِعْتَـــزَّ ب: کی وجہ سے خود کو قوی یا طاقت ور محسوس کرنا۔ پرفخر کرنا، اترانا۔ اِسْتَعَزَّ علی: پرغالب آنا۔ ـــــ: طاقت ور ہوجانا، محترم و معزز ہو جانا۔ ـــ ہٗ: کوعزیز ومحبوب بنانا، یا سمجھنا، کی از حد قدر کرنا، کی عزت کرنا، توقیر کرنا احترام کرنا۔ عِـزّهـا: ہرہائی نس Her Highnes، فی عِـزّ شبابه: کے عنفوان شباب میں۔ عِـزّة الجانب: طاقت، قوت، العِزّة القومية: قومی افتخار۔ عِزّة النفس: خودداری صـاحـبُ العِـزّة: ایک "بےکا" خطاب۔ عَـزِيزُ الـجـانـب: قوی۔ طاقت ور، مضبوط۔ اَعَزّ: زیادہ قوی، زیادہ طاقت ور، زیادہ مضبوط۔

عزب: ۱۔ عَـزَبَ ـُـ عُـزْبَةً و عُـزُوبة: کنوارا ہونا۔ أَعْزَبَ ہٗ: کو بے بیوی بنانا۔ تَـعَزَّبَ: مجرد رہنے کے بعد شادی کر لینا۔ العَازِبة جمع عَوَازِب: عازب کامونث۔ بیوی العَزَب جمع عُزّاب و أَعْزَاب: وہ مرد یا عورت جس کی بیوی یا شوہر نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں جس مرد کی بیوی نہ ہوا سے عَـــزَب اور جس عورت کا شوہر نہ ہوا سے عَـزَبَة کہا جاتا ہے۔ الأَعْـــزَب م عَزْباء جمع عُزْب والعزيب۔ جس کے اہل وعیال نہ ہوں۔ المِعْزَبَة: باندی، لونڈی۔ المُعَزَّبة: بیوی۔ الـمِـعزَابة: جس کے اہل وعیال نہ ہوں، جو عرصہ تک کنوارہ رہے۔

۲۔ عَـزَبَ ـــِ عُزُوبًا: دور ہونا، غائب ہونا، پوشیدہ ہونا صفت عَـازِب۔ ـــ ت الارضُ: زمین ویران ہونا، یعنی جہاں کوئی نہ ہو۔ عَــــزَّبَ: دیر تک غائب رہنا، شروع کئے ہوئے کو چھوڑ دینا۔ أَعْزَبَ: دور ہونا۔ ـــ ہٗ: کو دور کرنا۔ العازب (فا): دور کی چراگاہ۔ العَزِيب: وہ مرد جو اپنے اہل اور مال سے دور ہو۔ الـمِـعْـزَاب والـمِـعْـزَابة: جو شخص اپنے جانوروں کو چرانے دور لیجائے۔

۞ عَـزَبَ ـــُ عُزُوبًا عن: سے دور ہونا۔ کے ذہن سے نکل جانا عـــزب عـن الاذهـــان: فراموش ہوجانا، بالکل بھولا ہوا ہونا، نگاہ تغافل کا شکار ہونا۔ عَـزَبَ ـُـ عُـزْبَةً و عُـزُوبَةً: اکیلا ہونا، غیر شادی شدہ ہونا۔ عَـزَب جمع عُـزَّاب و أَعْـزاب: مجرد، غیر متاہل، اکیلا، غیر شادی شدہ، کنوارہ۔ عِـزبة جمع عِـزَب: دیہات میں زمینی جائیداد، فارم (Farm)، دیہاتی حویلی۔ مُعَزَّب: شیخ، امیر (نجد)

عزج: عَزَجَ ـَ عَزْجًا الرجُلَ: کو دور کرنا۔ ـ الأرض بالمِسحاة: بیلچے سے زمین کو الٹ پلٹ کرنا۔

عزر: ۱۔ عَزَرَ ـِ عَزْرًا ہٗ: کوملامت کرنا، کی مدد کرنا۔ ـ ہٗ عن كذا: کو سے منع کرنا۔ عَـزَّرَ ہٗ: کوملامت کرنا، کی تادیب کرنا، کو بہت مارنا، کی تعظیم کرنا، کی مدد کرنا۔ العَزوَر والعَزوَّر: بدخلق۔ العَزوَرة: عَزوَر کا مونث

۲۔ عَـزَرَ ـِ عَزْرًا ہٗ علی الأمر: کوکی خبر دینا۔ ـ ہٗ علی الفرائض والاحكام: کوفرائض واحکام سے واقف کرنا۔

۳۔ الـعَـزْوَرَة: ٹیلہ۔ الـعَـزَائِر لکڑیاں، درختوں کا بقایا (بغیر واحد کے جمع ہے)۔

۞ عَزَرَ: کسی سے تعلق کا انکار کرنا۔ عَزَّرَ: کسی سے تعلق کا انکار کرنا۔ عَـزَرَہٗ: کوملامت کرنا۔ کوملامت کرنا، کو سرکاری طور پر سرزنش کرنا۔ عَـــزّره: کوملامت کرنا، سرکاری طور پر سرزنش کرنا۔ تـعـزیر: ملامت، سرکاری سرزنش، تادیب، گوشمالی۔ اعتـــزار: ذاتی انضباط۔ عِزرائیل: موت کا فرشتہ۔

عزف: ۱۔ عَـزَفَ ـِـ عَزْفًا و عَزِيفًا: آواز نکالنا، گانا۔ عَـــزَّفَ: آواز نکالنا۔ أَعْـــزَفَ: ہوا اور ریت کی سرسراہٹ سننا۔ تَـعَازَفُوا: ایک دوسرے کے سامنے رجز پڑھنا۔ آپس میں فخر کرنا، ایک دوسرے کی ہجو کرنا۔ الـعـازِف: موسیقار، موسیقی کے آلات بجانے والا، گویا الـعَـزْف: دُف کی آواز۔ عَـزْفُ الرياح: ہوا کی سرسراہٹ۔ عَـزفُ الجـنّ و عَـزِيفُهـا: بیابانوں میں سنی جانے والی سرگوشیاں، جن کی وجہ سے ریت کے ٹیلے گر جاتے عربوں کو یوں معلوم ہوتا جیسے کہ وہ جنوں کی آوازیں ہیں۔ الـعُزف (ح) صحرائی کبوتر۔ العَـزَّاف: عازف کا اسم مبالغہ سـحـابٌ عَـزّاف: [illegible] بادل عَـزْف۔ الـمِـعْـزَف، والمِعْزَفة (مو): گانے بجانے کے آلات۔ آلات موسیقی۔ الـمَـعْـزُوفة جمع مَـعْزُوفات (مو): موسیقی کا ٹکڑا جس کے ساتھ گانا نہ ہو۔

۲۔ عَزَفَ ـِ عَزْفًا و عُزُوفًا نفسه عن الشيء: سے بے رغبتی کرنا، ملول ہونا۔ ـــ نفسَهُ عن كذا: اپنے آپ کو سے منع کرنا، روکنا۔ العَـزُوف و العَزُوفَة جمع عُـزَّاف: جو شخص دوستی پر قائم نہ رہے کہتے ہیں۔ هـو عَـزُوفٌ عـن اللهو: وہ لہو ولعب سے دور رہتا ہے۔

۳۔ اِعْزَوْزَفَ للشر: برائی کیلئے آمادہ ہونا۔

۞ عَزَفَ ـِ عَزْفًا علی: موسیقی کا کوئی آلہ بجانا۔ ـ ھ: کوئی دھن بجانا، کوئی طرز نکالنا۔ عـزف ل: کیلئے ساز بجانا، کیلئے کوئی نغمہ گانا۔ ـــ ـِ عَزفا و عُزُوفا عن: سے ہٹ جانا، کا مخالف ہونا، سے بچنا، کی کترانا، ـــ ان: کچھ کرنے سے باز رہنا۔ عَـزُوف عـن: سے تنفر، بیزار، کا مخالف۔ مِعْزَف جمع مَعَازِف: پیانو۔ عازف: سازندہ، مطرب۔

عزق: ۱۔ عَزَقَ ـُ عَزْقًا الخبرَ عنّي: سے خبر روک لینا۔

۲۔ عَزَقَ ـُ عَزْقًا: تیز دوڑنا۔ ـ ہٗ ضربًا: کوخوب پیٹنا۔

۳۔ عَزَقَ ـِ عَزْقًا الارضَ: زمین کوکھودنا، زمین سے پانی نکالنا۔ العَزِيق من الارض: پست زمین۔ المِعْزَق والـمِـعْـزَقَة: کھودنے کا اوزار، جیسے پھاوڑا، کدال، بیلچہ۔

۴۔ عَزِقَ ـَ عَزَقًا به: سے چمٹنا۔

۵۔ العَزِق جمع عُزُق: بداخلاق۔ العَزُوق والعَزْوَق: پستہ، بے مغز۔ رجُـلٌ عَـزُوق: سخت مزاج بخیل، بدعادت۔ الـمِـعْـزَق والمِعْزَقة جمع مَعَازِق: ہوا میں اڑا کر گیہوں کو صاف کرنیوالا آلہ۔ الـمُـتَـعَـزِّق: بداخلاق۔

۞ عَـزَقَ ـــَ عَزْقًا الارضَ: مٹی کی فلائی کرنا، کوتر انا، کھرپنا، کھودنا، توڑنا، کھولنا، مِعْزَقة جمع مَعَازِق: کھرپا، کدال۔

عزل: عَـزَلَ ـِ عزلا ہٗ عن كذا: کو سے جدا کر دینا۔ فلانًا عن منصبه: کواس کے منصب سے علیحدہ کرنا۔ ـــ ہٗ عن عمله: کواس کے کام سے باز رکھنا۔ عَزَّلَ ہٗ: کو ایک جانب کر دینا۔ تَعَزَّلَ و اِعْتَزَلَ الشيءَ و عنه: سے جدا ہوجانا۔ تَعَازَلَ القومُ: ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ اِنْعَزَلَ عنه: سے ایک جانب ہونا۔ العَازِلُ (ف): حاجز غیر موصل Insulator وہ چیز جو بجلی یا حرارت کے سرایت کرنے میں مانع ہو، چنانچہ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خشک لکڑی بجلی اور حرارت کو سرایت کرنے سے روکنے والی ہے اور شیشہ بجلی کا حاجز ہے۔ العُزْل و العِزَال: کمزوری۔ العَزَل: نہتا ہونا۔ عَزَلُ الحمار: گدھے کا پچھلا حصہ۔ العُزُل جمع أَعْزَال: نہتا۔ العُزْلَة: جدائی، گوشہ تنہائی، تنہائی۔ العُزَّال: مُعْتَزِلَة۔ الأَعْزَلُ م عَزْلَاءُ، جمع عُزْل اعْزَال و عُزَّل و اعْزُلان: ریت کا اکیلا ڈھیر۔ بادل جو بارش نہ کرے، نہتا، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو۔ (فلك): دو میں سے ایک ستارے کا نام دوسرا رامح ہے۔ اس کا نام اعزل اسلئے پڑا کیونکہ اسکے سامنے کواکب میں سے کوئی ستارہ نہیں ہوتا اس طرح جس طرح نہتا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ ــ من الطیر: وہ پرندہ جو اڑ نہ سکے۔ ــ من الدواب: دم کو عادتاً جھکا کر رکھنے والا جانور۔ العَزْلاء جمع العَزَالی و العَزَالی: اعزل کا مونث، سرین، مشک وغیرہ کا منہ۔ کہتے ہیں۔ انزلت السماءُ عَزَالِیَها: آسمان نے دہانے کھول دیئے۔ یعنی موسلا دھار بارش ہوئی۔ هو عن الحق بمَعْزِلٍ: وہ حق سے دور ہے۔ المُعْتَزِلَة: قدریہ کی ایک جماعت جو اس بات کے قائل تھے کہ وہ اہل سنت اور خوارج سے اس لئے علیحدہ ہوئے کہ ان کے دعوی کے مطابق یہ دونوں اہل سنت و خوارج گمراہی پھیلاتے ہیں۔ المِعْزال جمع مَعَازِیل: اپنے مویشیوں کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہو کر چرانے والا۔ وہ شخص جو سفر میں دوسرے لوگوں سے علیحدہ اترے۔ خود رائے۔ نہتا۔ جس کے پاس ہتھیار نہ ہوں۔ کمزور احمق۔

○ عَزَلَ ـِ عَزْلاً ہ / ہ عن: کو سے دور کرنا۔ ہٹانا، ایک طرف کرنا، کو سے علیحدہ کرنا، الگ تھلگ کرنا، کو سے روکنا۔ ــ ہ: کو معزول کرنا، کے اختیارات چھین لینا۔ کو تخت سے اتارنا۔ ــ عن منصبه: کو اس کے عہدہ سے سبکدوش کرنا، برخاست کرنا، الگ کر دینا۔ اَعْزَلَ منصبَه: اپنا منصب چھوڑ دینا۔ استعفیٰ دے دینا، مستعفی ہو جانا۔ اِنْعَزَلَ عن: سے تنہا ہونا، یا ہو جانا، علیحدہ ہونا یا ہو جانا، جدا ہونا یا ہو جانا۔ اِعْتَزَلَ: دور رہنا، تنہا کھڑا ہونا، چھوڑ دینا، دست بردار ہونا۔ ــ ہ / ہ یا عن: سے ریٹائر ہو جانا، سے ہٹنا، اپنے آپ کو سے الگ رکھنا، تنہائی میں رکھنا، سے جدا ہو جانا، سے قطع تعلق کرنا، سے اظہار بیزاری کرنا، سے الگ ہو جانا، سے علیحدگی اختیار کر، کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ ــ: معزورل ہونا، یا ہو جانا۔ ــ الخدمةَ و ــ العملَ: ملازمت سے ریٹائرڈ ہو جانا، کام سے ریٹائرد ہو جانا، سبکدوش ہو جانا۔ عَزْل: ہٹانا، ہٹنا، علیحدگی، قطع تعلق، ایک طرف کرنا، علیحدہ کرنا، جدا کرنا، معزول، برخاستگی، سبکدوشی، حَائِطُ عَزْلِ الحَرْق: آگ کی دیوار غیر قابل للعزل: جسے ہٹایا نہ جا سکے۔ تاحیات۔ تعنیّات (جج)، عَزَلَ: بے بسی، نہتا پن، عُزْلَة: علیحدگی، تنہائی، آرام، خلوت، گوشہ نشینی، الگ تھلگ کرنا، گوشہ تنہائی، علیحدگی، منفصل کرنا، حجز، الگ کرنا، جدا کرنا، حاجز درمیان میں رکھنا، تنگ نظری، فی عُزْلَةٍ عن: سے الگ تھلگ، سے علیحدہ، سے جدا، عِزْلَة جمع عِزَل: یمن کی ایک تحصیل، عِزَال: فرنیچر، منقولہ چیزیں، اسباب، سامان، اَعْزَل م عَزْلاء، جمع عُزْل: غیر مسلح، بے ہتھیار، نہتا، بے بس، بلا دفاع، السماك الاعزل: ستاروں کے جھرمٹ میں ایک ستارہ۔ مَعْزِل جمع مَعَازِل: گوشہ نشینی کی جگہ، تنہائی، خلوت، الگ تھلگ جگہ، علیحدگی (ہسپتال میں) علیحدہ رکھنے کا وارڈ۔ بمعزل عن: سے جدا، علیحدہ، عَازِل، و عازلة جمع عَازِلات و عوازل: انسولیٹر Insulator (حاجز) غیر مُوصِل: Non conductor۔ إنْعَزَالِيَة: علیحدگی پسندی Isolationism۔ انعزال: علیحدگی، اعتزال: سبکدوشی، تنہائی، خلوت، گوشہ نشینی، مَعْزُول عن: سے دور، جدا، معزول، علیحدہ، منعزل: جدا، اکیلا، تنہا، یکا و تنہا، نادر الوقوع، شاذ، کبھی کبھار کا۔ المُعْتَزِلة: ایک دینیاتی مدرسہ فکر جس نے اسلام میں قیاس پر مبنی ادعا پسندی کو رائج کیا۔ مُعْتَزَل: گوشہ تنہائی، علیحدگی اور آرام کی جگہ۔

عزم: ا۔ عَزَمَ ـِ عَزْمًا و عُزْمًا و مَعْزَمًا و مَعْزِمًا و عَزِيمًا و عَزَمَةً و عَزِيْمَةً و عُزمانًا الامرَ و علیه: کا دل میں پختہ ارادہ کرنا۔ ــ الرجُلُ: کوشش کرنا۔ ــ الامرُ: واجب ہونا۔ تَعَزَّم الامرَ و علی الامرَ: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ إعْتَزَم الامرَ و علیه: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ ــ الطریقَ: راستہ سے بغیر ٹھہرے گذر جانا۔ ــ الفرسُ فی عِنَانِه: گھوڑے کا سرکشی کرنا، العَازِم جمع عَزَمَة و عازمون فا، امرٌ عازِمٌ: وہ کام جس کا پختہ ارادہ کیا گیا ہو۔ العَزْم (مص): پختہ ارادہ۔ نیت العَزْمَة جمع عَزَمات: حق، واجب، کہتے ہیں۔ ماله عَزْمَةٌ: اس کو اس بات پر جس کا اس نے پختہ ارادہ کر رکھا ہے، ثبات و صبر نہیں۔ عَزَمات اللّٰه: اللہ کی طرف سے لوگوں پر واجب کئے ہوئے حقوق و فرائض۔ العزّام: عازم کا صیغہ مبالغہ۔ شیر۔ العَزْمِیّ: عزم سے منسوب، عہد کو پورا کرنے والا۔ العَزُوم: اپنے عزم پر قائم رہنے والا۔ العَزِیم (مص): تیز دوڑ۔ العَزِیمة (مص) جمع عَزَائِم: پختہ ارادہ۔ عَزَائِم اللّٰه: اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر فرض کئے گئے حقوق و فرائض۔

۲۔ عَزَمَ ـِ عَزْمًا و عُزْمًا و مَعْزَمًا و مَعْزِمًا و عَزِيمًا و عَزَمَةً و عَزِيْمَةً و عُزمانًا فلانٌ علی فلان: فلاں کا فلاں سے التجا کرنا، کہتے ہیں۔ فلاں کا فلاں سے قسم لینا۔ عزمتُ علیك لتفعلنَّ او الاّ فعلتَ اولمّا فعلتَ: میں نے تم سے قسم لی تھی کہ تم ضرور کرو گے؟ یا نہیں کرو گے، یا جب کرو گے۔ عَزَّمَ الراقی: ساحر کا منتر پڑھنا۔ العَزِیْمَةُ جمع عَزَائِم: منتر۔ المُعَزِّم فا: ساحر، جادوگر، منتر پڑھنے والا۔

۳۔ العُزْمَة جمع عُزَم: خاندان، قبیلہ، العَزِیْمَة جمع عَزَائم: کھانے کی دعوت یا پارٹی میں شرکت کی دعوت، عام زبان میں اس لفظ سے فعل بنا کر کہا جاتا ہے۔ عَزَمه فهو عازم و المدعو معزوم: اس نے اس کو دعوت دی۔ دعوت دینے والے کو عازم اور مدعو کو معزوم کہتے ہیں۔ العَزُّوم: دبر۔ ــ جمع عُزُم: بڑھیا عورت

○ عَزَمَ ـِ عَزْمًا و عَزِيْمَةً علی: کرنے کا فیصلہ کرنا، پختہ ارادہ کر لینا، پر تل جانا، کو قسم دینا، سے قسم لینا، سے واسطہ دیکر التجا کرنا، ــ ہ علی / ان: کو کی دعوت دینا، کو کچھ کرنے کی دینا۔ عَزَّم علی: پر جادو کرنا، سحر کرنا، کو مسحور کرنا۔ إعْتَزَمَ ہ / علی: کو کرنے کا فیصلہ کرنا یا پختہ ارادہ کرنا پر تلا ہونا۔ عَزْمَة: فیصلہ، پختہ ارادہ۔ ــ ب: کو کرنے کا سخت حکم۔ عزومة: دعوت بلاوہ۔ خاص ضیافت، بڑی دعوت۔

عزا: ا۔ عَزَا ـُ عَزْوًا الشیَٔ او فلانًا الی فلان: کو سے منسوب کرنا۔ کی سے نسبت کرنا۔ ــ و تعَزَّی تعَزِّیًا و إعْتَزَی إعْتِزَاءً لفلان و إلی فلان: سے منسوب ہونا، اپنے آپ کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا خواہ یہ سچ ہو یا جھوٹ۔ اسم عَزَاء اس سے ہے إعْتَزَی بعَزَاء الجاهلیة: اس نے اپنے آپ کو جاہلیت سے منسوب کیا۔ العِزَة جمع عِزًی عِزُون: لوگوں کا ایک گروہ۔ العِزْوَة: انتساب عام لوگ کہتے ہیں۔ هو صاحبُ عِزْوَة: وہ ایسے لوگوں سے منسوب ہے جو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔

۲۔ عَزَ ـُ عَزَاءً الرجُلُ: صبر کرنا۔ العِزْوَة: صبر۔

○ عَزَا ـُ عَزْوًا و عَزَی ـِ عَزْیًا ہ الی / ل: کی اصل کا پتہ لگانا، کھوج لگانا، سراغ لگانا، کو سے منسوب کرنا، کو سے نسبت دینا، کو پر محمول کرنا، کو کا باعث قرار دینا، کے لئے کا مرہون منت یا رہین منت ہونا۔ (کسی جرم) کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پرالزام لگانا۔ کا پرالزام دینا۔ عَزِی ـَ عَزاءً و عَزًا ـُ عَزاءً: صبر کرنا۔ عَزّٰی ہ فی / عن: کو پر صبر کرنے کی تلقین کرنا، کی تعزیت کرنا۔ ـــ ہ عن: پر کو تسلی دینا، پر کی دلجوئی کرنا، پر کو دلاسا دینا، پر کے آنسو پونچھنا، ـــ ہ: کو تسلی دینا، سے ہمدردی کا اظہار کرنا، سے تعزیت کرنا۔ تعَزّٰی: صبر کرنا۔ ـــ عن: کے لئے خود کو تسلی دینا، دلاسا دینا۔ اِنْعَزٰی ب: سے خود کو تسلی دینا، میں تسلی و تسکین حاصل کرنا۔ اِعتَزی اِلی: اپنی اصل سے منسوب کرنا۔ حَسَنُ العِزوۃ: خاندانی۔ عزاء: اطمینان، سکون دلجمعی، دلاسا، تسلی، تشفی، دل جوئی، ڈھارس، تسکین، ماتم۔ تعزیۃ: دلاسا، تسلی، تشفی، ڈھارس، تسکین، پرسا، ماتم پرسی، تعزیت۔ رفعِ تعزیتہ: اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا۔ قدّمَ التعازی: تعزیت کرنا۔ مُعَزٍّ تعزیت کرنے والا، ڈھارس بندھانیوالا، تسلی دینے والا۔

عزی: ا۔ عَزَی ـِ عَزْیًا الشیءَ او فلانا الی فلان: کی سے نسبت کرنا۔ کو سے منسوب کرنا۔ تَعَزّٰی تُعَزِیًّا الیہ: سے منسوب ہونا۔ العِزیۃ: انتساب۔ الاعتزاء (مص): دعوی کرنا۔

۲۔ عَزِیَ ـــ عَزَاءً: مصیبت پر صبر کرنا صفت مذکر عَزٍ صفت: مونث۔ عَزِیَّۃ۔ عَزّٰی تَعْزِیَۃً الرجُلَ: کو تسلی دینا۔ تَعَزّٰی تَعَزِّیًا عنہ: پر صبر کرنا، سے تسلی حاصل کرنا۔ تَعَازٰی تعَازِیًا القومُ: ایک دوسرے کو تسلی دینا۔ العَزِیّ: صابر۔

۳۔ الإعْتِزاء: جنگ میں کوئی خاص علامت۔

عس: ا۔ عَسَّ ـُ عَسًّا و عَسَسًا: رات کو پاسبانی کرنا۔ اِعْتَسَّ: رات کے وقت مشتبہ لوگوں پر مطلع ہونا۔ ـــ الشیءَ: رات میں کو طلب کرنا یا اس کے پاس جانا۔ ـــ البلدَ: شہر میں داخل ہونا اور حالات سے مطلع ہونا۔ العَاسّ جمع عَسَسٌ و عَسِیس: رات کا پاسبان۔ چوکیدار العَسَس: عاس کی جمع رات کو پاسبانی کرنے والے اور مشتبہ لوگوں کا پتہ لگانے والے۔ العَسَّاس: رات کا پاسبان بھیڑیا۔ العَسُوس: شکار کا متلاشی۔ العَسّی: رات کا پاسبان (عام زبان میں) المَعَسّ: درخواست، عرضی۔

۲۔ عَسَّ ـُ عَسًّا و عَسَسًا الخبرُ: خبر دیر سے پہنچنا۔

۳۔ عَسَّ ـــُ عَسًّا و عَسًا القومَ: لوگوں کو تھوڑا کھانا کھلانا، العَسُوس: بے برکت مرد۔

۴۔ العُسّ جمع عِسَاس و عِسَسَۃ و اَعْسَاس و عُسّ: بڑا پیالہ، بڑا برتن۔ العَسُوس: دودھ دوہتے وقت بدکنے والی اونٹنی۔

۵۔ عَسْعَسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا، رات کا گزرنا۔ ـ السحابُ: بادل کا زمین کے قریب آجانا۔ الامرَ: بات کو مشتبہ کر دینا، معمی بنا دینا۔ تَعَسْعَسَ الذئبُ: بھیڑیے کا رات کو گھومنا۔ العَسْعَس والعَسْعاس: بھیڑیا، جو رات میں شکار کا متلاشی ہو۔

۶۔ عَسْعَسَ الشیءَ: چیز کو حرکت دینا۔ العسعاس: سراب، ہلکی چیز۔

۷۔ تَعَسْعَسَ الشیءَ: کو سونگھنا۔

عسب: ا۔ أعسب الذئبُ: بھیڑیے کا بھاگ جانا۔ اِسْتَعْسَبَ منہ: کو ناپسند کرنا۔

۲۔ أعْسَبَ ہُ جَمَلَہُ: کو اونٹ عاریت پر دینا، کو اونٹ کرائے پر دینا۔ اسْتَعْسَبَ فلانًا جملَہ: سے اونٹ عاریت پر لینا۔ العَسْبَۃ: اسم مرہ۔

۳۔ العَسْب: نسل، کہتے ہیں قطع اللّٰہ عَسْبَہ: اللہ اس کی نسل منقطع کرے۔ العَسْبَۃ: پہاڑ میں شگاف۔ العَسُوب: بڑا سردار۔ العَسِیب جمع عُسب وعُسُب و عُسبان: دم کی ہڈی، یا وہاں پر بال اگنے کی جگہ۔ پشت پا، وہ کھجور کی ٹہنی جس کے پتے توڑ دیئے گئے ہوں۔ پہاڑ میں شگاف۔ الیَعْسُوب جمع یَعَاسِیب (ح): شہد کی مکھیوں کا بادشاہ شہد کی نر مکھی، بڑا سردار (کہتے ہیں۔ ھو یعسوبُ قومہ: وہ اپنی قوم کا بڑا اور سردار ہے)۔ ایک چھوٹا پرندہ، گھوڑے کے چہرے کی سفیدی (ح) ایک چار بازوؤں کا کیڑا جو پانی پر پھڑ پھڑاتا ہے۔

۴۔ العُسْبُر جمع عَسَابِر (ح): چیتا۔ العُسْبُرَۃ: مادہ چیتا۔ تیز رفتار اصیل اونٹنی۔ العِسْبَار (ح): بجو کے مشابہ ایک درندہ جو افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ بھیڑیے کا بچہ۔ العُسْبُور و العُسْبُورَۃ (ح): مادہ بھیڑ سے کتے کا بچہ۔

○ عَسِیب: (گھوڑے کی) دم کی ہڈی، جمع عُسُب: کھجور کے درخت کی شاخ جس کے پتے اتار دیئے گئے ہوں۔ یَعْسُوب جمع یعاسیب: شہد کی نر مکھی، ممتاز شخص، سربراہ، رہنما۔

عسج: ا۔ عَسَجَ ـِ عَسْجًا و عَسَجَانًا و عَسِیجًا: چلتے ہوئے گردن اٹھانا، گردن اٹھا کر چلنا۔ اِعْسَجَّ الشیخُ: بوڑھے آدمی کی کمر کا ٹیڑھا ہونا۔ العَوْسَج: واحد عَوْسَجَۃ کا (ن) ایک کانٹے دار جھاڑی، جو باڑ کا کام دیتی ہے۔

۲۔ العَسْجَد: سونا، جواہرات جیسے موتی یاقوت، العَسْجَدِیَّۃ: شاہی سواریاں، دراصل ان اونٹوں کو کہا جاتا تھا جو [illegible] شاہ چہرہ [illegible] جاتا

marfat.com

۳۔ عَسْجَرَ الطعامَ: کھانے میں نمک ڈالنا۔ العَسْجَر: نمک۔

۴۔ عَسْجَرَ الرجُلُ: تیز نظر سے دیکھنا۔

○ عَسْجَد: سونا۔ عَسْجَدِیّ: سنہری مُعَسْجَد: ملمع، سنہری۔

عسد: عَسَدَ ـِ عَسْدًا الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ العِسْوَدّ: بہت مضبوط (ح) سانپ۔

عسر: عَسَرَ ـِ عِسْرًا و عُسْرًا الزمانُ: زمانہ کا سخت ہونا۔ ـــ الغریمَ: قرضدار سے روپیہ طلب کرنا جب کہ وہ تنگدست ہو۔ ـــ علیہ مافی بطنہ: جو کچھ پیٹ میں ہو اس کا مشکل سے نکلنا۔ ـــ علی فلان: کا مخالف ہونا، کی مخالفت کرنا۔ ـــ ـِ عَسْرًا و عَسَرانًا المرأۃُ: پر ولادت کا دشوار ہونا۔ عَسِرَ ـَ عُسْرًا و عُسُرًا و عَسَرًا و مَعْسُورًا و عَسُرَ ـــُ عُسْرًا و عَسَارَۃً: دشوار ہونا، مشکل ہونا کہتے ہیں۔ عَسُرَ علیہ الامرُ: پر کام مشکل ہونا۔ ـــ الرجُلُ: بدخلق ہونا صفت عَسِر و عَسِیر۔ عَسَّرَ علیہ: کا مخالف ہونا، کی مخالفت کرنا، کو تنگ کرنا۔ و ـ الامرَ: کو دشوار کرنا۔ عَاسَرَ مُعَاسَرَۃً ہُ: سے تنگی کا معاملہ کرنا۔ اَعْسَرَ: تنگ دست ہونا۔ ـــ الغریمَ: قرضدار سے اس کی تنگدستی کے وقت قرض ادا کرنے کا تقاضا کرنا۔ ـــ ت المرأۃ: عورت پر بچہ جننا مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ تَعَسَّرَ علیہ الامرُ: پر معاملہ دشوار ہونا، پیچیدہ ہونا۔ ـــ علیہ القولُ: پر بات کا مشتبہ ہونا۔ تَعَاسَرَ علیہ الامرُ: پر معاملہ دشوار ہونا، پیچیدہ ہونا۔ ـــ علیہ القولُ: پر بات کا مشتبہ ہونا۔ ـــ البیّعان: بائع اور مشتری کا متفق نہ ہونا۔ اِعْتَسَرَہُ: کو مجبور کرنا۔ ـــ الکلامَ: فی البدیہ کہنا۔ اِسْتَعْسَرَ الامرَ: کو دشوار پانا۔ ـــ الامرُ علیہ: پر معاملہ سخت و پیچیدہ ہونا۔ العُسْر و العُسُر: تنگدستی، سختی، تنگی، العُسْرَۃ والمَعْسَرَۃ والمَعْسُرَۃ: تنگی، سختی۔ الأعْسَر: کہتے ہیں۔ یومٌ اَعْسَرُ: سخت دن، منحوس دن۔ العُسْرٰی: اَعْسَر کا مونث، تنگی، دشواری۔ المُعْسِر: قرضدار پر تنگی کرنے والا۔ المَعْسُور: تنگ حال۔

۲۔ عَسَرَ ـِ عَسْرًا ہُ: کے بائیں طرف سے آنا۔ عَسِرَ ـَ عَسَرًا: بائیں ہاتھ سے کام کرنا، صفت أعْسَر م عَسْرَاء جمع عُسْر۔ عَسَّرَہُ: کے بائیں طرف سے آنا۔ الأعْسَر: بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ عام لوگ اسے عسراوی کہتے ہیں۔ فلان عَسَرٌ یَسَرٌ: فلاں شخص دونوں ہاتھ سے کام کرنے والا ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

٣- عَسَرَ ـِ عَسْرًا و عَسَرَانًا تِ الناقةُ: اونٹنی کا دوڑتے وقت دم اٹھانا۔

○ عَسُرَ ـُ عُسْرًا و عُسُرًا و عَسِرَ ـَ عَسَرًا علی: کیلئے مشکل ہونا، دشوار ہونا، صبر آزما ہونا، تکلیف دہ ہونا، ناموافق ہونا، ناساعد ہونا، عَسَرَ ـِ عَسْرًا ہ علی: پر کیلئے زور دینا، کو مجبور کرنا۔ عَسَّرَ ہ کو مشکل اور سخت بنا دینا۔ ـ علی: سے دشمنی کرنا، کو کچلنا، ستانا، کیلئے تکلیف دہ ہونا، کو رنج یا تکلیف یا مصیبت پہنچانا، پر بہت بوجھ ڈالنا۔ عَاسَرَہ: کے ساتھ سخت سلوک کرنا۔ أَعْسَرَ: مصیبت یا تکلیف میں ہونا، مشکل میں ہونا، ناگوار صورت یا خطرناک صورت حال میں ہونا، مفلس ہو جانا، تنگ دست ہو جانا، مالی مشکلات میں پھنس جانا، مشکلات میں مبتلا ہونا۔ تَعَسَّرَ علی: کے لئے مشکل ہونا، دشوار ہونا، صبر آزما ہونا، تکلیف دہ ہونا، ناموافق ہونا، ناساعد ہونا، تَعَاسَرَ بمعنی تَعَسَّرَ اِسْتَعْسَرَ بمعنی تَعَسَّرَ نیز ـ ہ کو مشکل، دشوار، صبر آزما، تکلیف دہ یا ناموافق اور ناساعد پانا۔ عُسْر: مشکل، صبر آزما یا تکلیف دہ اور تنگدستی کی صورت حال، حالت زار، ناگوار، صورت حال، خطرناک صورت حال، برا حال، بری حالت، پریشانی، سخت مشکلات، عسرت، مفلسی، غربت، تنگدستی، بے نوائی، افلاس۔ عُسْرَة بمعنی عُسْر۔ عَسِر: دشوار، مشکل، صبر آزما، تکلیف دہ، پریشان کن، ناموافق، ناساعد۔ عَسِیر: مشکل، دشوار، سخت، کرخت، حجاز اور یمن کے مابین جنوب غربی سعودی عرب میں ایک پہاڑی ضلع کا نام۔ أَعْسَر: کچھ زیادہ سخت، زیادہ مشکل۔ مَعْسَرَة بمعنی عُسْر۔ إِعْسَار: غربت، افلاس، مالی مشکلات، دیوالیہ ہونا، دیوالیہ پن، تَعَسُّر: مشکل، مَعْسُور: مشکل حالات میں (رہنے والا) مُعْسِر: مشکل حالات میں (رہنے والا) غریب، مفلس۔ مُتَعَسِّر: دشوار، مشکل، صبر آزما، تکلیف دہ، پریشان کن، ناموافق، ناساعد۔

عسف: ۱- عَسَفَ ـِ عَسْفًا الطریقَ و عن الطریق: راستے سے ہٹ جانا، بے راہ بھٹکنا، ـ المفازة: جنگل کو ایسے راستے سے طے کرنا، جو رواں نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ بات یعسف اللیل و باللیل: وہ رات کو بے راہ ہو کر چلتا رہا۔ السلطانُ: سلطان کا ظلم کرنا۔ ـ ہ: پر ظلم کرنا ـ الشئ: چیز کو زبردستی لے لینا ـ فی الامر: کام بے سوچے سمجھے کرنا۔ ـ الدمعُ الجفونَ: آنسو بکثرت بہنا۔ عَسَفَ: بغیر علامت و نشان کے چلنا۔ أَعْسَفَ: رات کو بے راہ چلنا۔ تَعَسَّفَ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔ ـ الامرَ: کو بے سوچے سمجھے اختیار کرنا۔ ـ فلانًا: پر ظلم کرنا۔ ـ فی القول: بات کہنے میں بے راہ روی کرنا۔ بات کے ایسے معنی لینا جس پر اس کی دلالت واضح نہ ہو۔ اِعْتَسَفَ الطریقَ: بے جانے ہوئے راہ پر چلنا۔ ـ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔ ـ الامرَ: کو بے سمجھے بوجھے اختیار کرنا۔ ـ فلانًا: پر ظلم کرنا۔ اِنْعَسَفَ الشئُ: چیز کا مڑنا۔ العَسْف (مص) ظلم۔ العَسَّاف و العَسُوف و المِعْسَف: بہت ظالم۔ العِسِّیف: بے جانے و بے رہبر راہ چلنے والا کہتے ہیں۔ أخذوا فی مَعَاسِیف البِیْدِ معامیها: وہ جنگل کے نامعلوم راستوں پر چلنے لگے۔

٢- عَسَفَ ـِ عَسْفًا ہ: سے خدمت لینا۔ ـ لِفُلان: کسی کے لئے کام کرنا۔ عَسَفَ البعیرَ: اونٹ کو چلا چلا کر تھکا دینا۔ أَعْسَفَ: غلام سے سخت کام لینا۔ تَعَسَّفَ و اِعْتَسَفَ فلانًا: سے کام لینا، سے خدمت کرانا، یا لینا۔ العَسِیف جمع عُسَفَاء و عِسَفَة: مزدور۔

٣- العَسَفِ: موت۔ العَاسِف من الابل جمع عَوَاسِف: عساف کی بیماری والا اونٹ۔ کہتے ہیں۔ ناقةٌ عَاسِفٌ: عساف کی بیماری میں مبتلا اونٹنی۔ العُسَاف: (طب) اونٹ کی ایک بیماری جو اونٹ کے لئے انسان کے نزع کی مانند ہوتی ہے۔

○ عَسَفَ ـِ عَسْفًا فی: کو احتیاط اور سوچے سمجھے بغیر کرنا، کو اندھا دھند کرنا۔ ـ ہ: سے بے انصافی سے پیش آنا، پر ظلم کرنا۔ عَسَّفَ ہ: پر بہت بوجھ ڈالنا، کو بہت کام دینا، سے بہت زیادہ کام لینا، پر بہت زیادہ ٹیکس لگانا۔ أَعْسَفَ بمعنی عَسَّفَ، تَعَسَّفَ ہ: اٹکل سے کوئی کام کرنا، کو یونہی اتفاق سے کرنا۔ ـ فی: کو من مانے طریقہ سے انجام دینا۔ ـ عن: سے انحراف کرنا، ہٹنا، تجاوز کرنا، سے بھٹک جانا، سے بھٹکتے پھرنا۔ اِعْتَسَفَ ہ: کوئی کام بے سوچے سمجھے کرنا، اٹکل سے کرنا۔ ـ عن: سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، سے بھٹک جانا، سے بھٹکتے پھرنا۔ ـ: بھٹک جانا۔ ـ ہ ب: کو کچھ کرنے پر مجبور کرنا۔ عَسْف: ناانصافی، ظلم، استبداد، عَسُوف: بے انصاف، ظالم، جابر، مستبد حکمران، مطلق العنان حاکم۔ عَسَّاف: بے انصاف، ظالم، مستبد حکمران، مطلق العنان حاکم۔ تَعَسُّف: ظلم، من مانی، خود مختاری، زبان کو استعمال کرنے کا من مانا، آزاد اور غلط اسلوب۔ تَعَسُّفِی: خود مختارانہ من مانا، ظالمانہ مستبدانہ۔ اِعْتِسَاف: بھٹکنا، انحراف، کجروی، دباؤ، جبر، استبداد، زبردستی۔

عسق: ۱- عَسِقَ ـَ عَسَقًا و عَسَّقَ بہ: سے چمٹ جانا۔ ـ علیہ: سے طلب میں اصرار کرنا۔ العَسَق (مص): تنگ خوئی، اول شب کی تاریکی۔ العَسِیقَة: خراب شراب۔

٢- عَسْقَلَ السرابُ: سراب کا چمکنا۔ العَسْقَل: عساقِل کا واحد۔ عسقلُ الرأس: سر کے اوپر کا حصہ۔ العَسَاقِل و العَسَاقِیل: سراب، بادل کے متفرق ٹکڑے۔

٣- العَسْقَل (ن): پودے کے تنے یا جڑ کا سخت اور پھولا ہوا حصہ جو بھرپور غذائی مواد پر مشتمل ہوتا ہے۔

○ عَسْقَلان: جنوب غربی فلسطین میں ایک بندرگاہ کا نام۔

عسک: ۱- عَسِکَ ـَ عَسَکًا بہ: سے چمٹنا۔ تَعَسَّکَ الرجُلُ فی مشیتہ: بل کھاتے ہوئے جانا۔

٢- عَسْکَرَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا۔ ـ اللیلُ: رات کی تاریکی کا بڑھنا۔ ـ الشئَ: کو جمع کرنا۔ جمع کی ہوئی شے مُعَسْکَر کہلاتی ہے۔ العَسْکَر جمع عَسَاکِر: جمع لشکر (فارسی لفظ)۔ ہر چیز کا بہت سا حصہ۔ کہتے ہیں انجلت عنہ عساکرُ الھمِ: غم کی کثرت اس سے دور ہوگئی۔ المُعَسْکَر (مفع): جمع ہونے کی جگہ (ا ع) کیمپ، پڑاؤ، فرودگاہ، چھاؤنی۔

○ عَسْکَر جمع عَسَاکِر: فوج، لشکر (army) فوجی رسالہ (Soldiers) عَسَاکِر ضابطیة: پولیس constabulary یا police troops۔ عسکری: فوجی (Army)۔ العسکریون: فوجی The militray جمع عَسَاکِر: (فوجی) سپاہی، نجی فوج، پولیس والا Police man، فوج enlistad men ranks۔ عَسْکَرِیَّة: فوجی خدمت Military service فوجی طاقت پر بھروسہ Militarism، فوجیت، سپاہیت، مُعَسْکَر جمع مُعَسْکَرات: فوجی کیمپ، فوجی پڑاؤ، چھاؤنی، کیمپ۔ مُعَسْکَرُ الاعتقال: سیاسی قیدیوں کا ایک کیمپ، مرکز اسیران سیاسی۔

عسل: عَسَلَ ـُ عَسْلًا الطعامَ: کھانے میں شہد ملانا۔ ـ الفؤ: کو شہد کھلانا، شہد کا توشہ دینا۔ عَسَّلَ القومَ: کو شہد کھلانا، کو شہد کا توشہ دینا۔ ـ الطعامَ: کھانے میں شہد ملانا۔ ـ ت النحلُ: مکھیوں کا شہد بنانا۔ ـ الشئ: چیز کا شہد جیسی ہونا۔ اِسْتَعْسَلَ: شہد طلب کرنا۔ ـ ت النحلُ: مکھیوں کا شہد بنانا۔ العَسَل (مص) جمع أَعْسَال و عُسْل و عُسُل و عُسُول و عُسْلان: شہد (مذکر اور کبھی مونث) تھوڑے شہد کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عَسَلَة کہتے ہیں۔ شیرۂ کھجور۔ کہتے ہیں۔ مالفلان مَضرِبُ عَسَلَةٍ: فلاں بےنسب ہے۔ ماترك له مَضرِبَ عَسَلَةٍ: اس نے اس کو گالی دی حتی کہ اس کا نسب کالعدم کردیا اور اس کے منصب کی نفی کردی۔ العَسَلِيّ: شہد کے رنگ کا۔ العَاسِل (فا): جمع عُسَّل وعَوَاسِل: شہد نکالنے والا۔ نیکوکار، دیانت دار، نیک خداترس۔ خَلِيَّةٌ عَاسِلَة: شہد والا یا شہد کا چھتہ۔ العَسَّال: شہد نکالنے والا۔ العَسَّالة: شہد کی مکھی کا چھتہ، شہد کی مکھی۔ شہد نکالنے والے العَسُول جمع عُسُل: نیکوکار۔ نیک المَعْسَلَة والمَعْسُلَة: شہد کی مکھی کا چھتہ۔ المَعْسُول (مفع): رَجُلٌ مَعْسُولُ الكلام: شیریں زبان۔ خوش آواز۔ مَعْسُولُ المواعيد: سچے وعدوں والا۔

۲۔ عَسَلَ ـُ عَسَلاً وعَسَلاَنًا الماءُ: پانی کا ہوا کی وجہ سے لہرانا۔ ـــِ عَسْلاً وعُسُولاً وعَسَلاَنًا الرمحُ: نیزہ کا ہلنا، تھرانا، خوب حرکت کرنا۔ ـ الذئبُ او الفرسُ: گھوڑے یا بھیڑیے کا دوڑنے میں بےچین ہونا اور سر جھٹکنا۔ عَسَّلَ النائمُ: اونگھنا۔ رمحٌ عَاسِلٌ وعَسَّال وعَسُولٌ: نرمی کی وجہ سے حرکت کرنے والا نیزہ۔

۳۔ العَسْل: کہتے ہیں: عَسْلاً لَهُ: بمعنی تَعْسًا لَه: کے لئے ہلاکت ہو۔ العَسَّال (ج): بھیڑیا۔ العَسِيل جمع عُسُل: عطر فروش کی جھاڑو جس سے وہ عطر جمع کرتا ہے۔

۴۔ عَسْلَجَ الشجرُ: درخت پر نرم ٹہنی نکلنا۔ العُسْلُج جمع عَسَالِج والعُسْلُوج جمع عساليج: نرم ٹہنیاں۔

۵۔ عَسْلَطَ: غیر مربوط کلام کرنا۔ كلامٌ مُعَسْلَطٌ: غیر مربوط بات چیت۔

☐ عَسَّلَ ـ: کوئی چیز شہد سے تیار کرنا یا اس میں شہد ملانا۔ کو میٹھا کرنا، خوشگوار کرنا۔ عَسَلُ شُكَّرٍ: راب، شیرہ۔ عَسَلٌ اَسْوَد: راب، شیرہ۔ شهر العَسَل: ہنی مون، ماہ عسل۔ عَسَلِيّ: شہد کے رنگ کا، عنبری، بادام جیسا۔ عَسَّال: شہد جمع کرنیوالا، شہد کی مکھیاں پالنے والا۔ عَسَّالة: چھتا، نحل گاہ۔ عَيسَلان: سنبل (hacinth) مَعْسَلَة: چھتا، نحل گاہ۔ تَعْسِيلَة: جھپکی، ہلکی سی نیند، اونگھ، مَعْسُول: شہد سے تیار کی ہوئی (چیز) شہد ملی ہوئی (چیز) شہد جیسی میٹھی۔ عُسْلُج جمع عَسَالِج: چھوٹی ٹہنی، نرم ڈالی، کونپل۔ ـ عُسْلُوج جمع عَسَالِيج: نرم ڈالی، چھوٹی ٹہنی، کونپل۔

عسم: ۱۔ عَسَمَ ـِ عَسْمًا وعُسُومًا في الامر: کا لالچ کرنا، کی کوشش کرنا، کی سنجیدگی سے خواہش کرنا۔ اِعْتَسَمَ: کمائی کرنا۔ ـــ فلانًا: کو اس کی طمع کی چیز دینا۔ العَاسِم: اپنے کنبہ کیلئے کمانے والا۔ العُسُوم: خشک روٹی کے ٹکڑے، کی۔ العُسْمَة: منہ بھر (کہتے ہیں۔ ماذاق الاعَسْمَة: اس نے صرف منہ بھر کے چکھا) العَسْمة: خشک روٹی کے ٹکڑے۔ العَسُوم جمع عُسُم: اپنے کنبے کے لئے کمانیوالا۔ المَعْسَم: جائے طمع۔ کہتے ہیں۔ مالك في بني فلان مَعْسَمٌ: تمہارے لئے فلاں قبیلے میں کوئی جائے طمع نہیں۔

۲۔ عَسَمَ ـِ عَسْمًا وعُسُومًا وأَعْسَمَ ت عينُهُ: آنکھ کا بہہ پڑنا، آنکھ کا بند ہونا بقول بعض پلک کا چپک جانا۔

۳۔ عَسِمَ ـَ عَسَمًا ت القومُ او الكفُّ: پاؤں یا ہتھیلی کا خشک ہوکر ٹیڑھا ہوجانا صفت مذکر أَعْسَم: صفت مونث عَسْمَاء۔ أَعْسَمَ يَدَهُ: ہاتھ کو خشک کردینا۔

عَسَن: ۱۔ عَسِنَ ـَ عَسَنًا الكلاءُ في الدابّة: گھاس ہضم ہوجانا اور جانور فربہ ہوجانا۔ ـــت الدابّةُ: چارہ ہضم ہونا اور جانور کا موٹا ہوجانا۔ أَعْسَنَ المكانُ: جگہ کا کچھ سبزی اگانا۔ العُسْن والعَسْن: چربی۔ العَسُون والأَعْسَن جمع عُسْن: موٹا، فربہ۔

۲۔ تَعَسَّنَ الشئَ: کا پتہ نشان تلاش کرنا، ـــ أباهُ: اپنے باپ سے مشابہ ہونا۔ العِسْن: مثل، نظیر اَعْسَان الشئ: کسی چیز کے نشان اور اس کی جگہ، کہتے ہیں۔ هو علي أَعْسَانٍ من ابيه: وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔

۳۔ العَسَنِ: سپیدی اور بالوں کی خوبصورتی کے ساتھ لمبائی۔

عسا: ۱۔ عَسَا ـُ عَسَاءً وعُسُوًّا النباتُ: نباتات کا گاڑھا اور سخت ہونا۔ ـت يدُهُ: کام کی وجہ سے ہاتھ سخت ہونا۔ ـــ الليلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ العَاسِي (فا): سخت مزاج۔

۲۔ عَسَا ـُ عَسْوًا وعُسُوًّا وعُسِيًّا وعَسَاءً وعَسْوَةً الشيخُ: بوڑھا ہونا۔ العِسْوَة: بڑھاپا۔

۳۔ العَسْوُ: موم۔

عسي: عَسِيَ ـَ عَسًى النباتُ: نباتات کا گاڑھا اور سخت ہونا۔ عَسَى: جامد فعل ہے اور مقاربہ کے افعال میں سے ہے۔ محبوب چیز میں امید اور ناپسندیدہ بات میں خوف کیلئے آتا ہے اور سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں یہ دونوں معنی اکٹھے آئے ہیں۔ عسى ان تكرهو شيئاً وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم۔ أعْسِ به: فعل تعجب بمعنی اَخْلِقْ بِهِ: ہے یعنی کس قدر لائق ہے۔ العَسِي والعَسِيّ والمعساة بالامر: کے لائق، مناسب۔ المِعْسَاء: نوخیز لڑکی، قریب بلوغ لڑکی۔

☐ عَسَى: (اَن کے ساتھ) ہوسکتا ہے، ممکن ہے کہ، شاید، ماعسى ان يكون: کیا ہوسکتا ہے۔ ماذا عسى ان افعلَ: مجھے کیا کرنا چاہئے۔ ما عسى ينفع هذا: یہ کس کام کا ہوسکتا ہے۔ ماذا عساه يقول: وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ عَسِي: مناسب، موزوں، هو عسي ب (يا أن): یہ اس کے لئے مناسب ہے اس کے لئے مناسب ہے (کہ)۔ هم عسيون ب: یہ ان کے لئے مناسب ہے۔ ان کے لئے مناسب ہے (کہ)۔ عاسٍ: خشک، مرجھایا ہوا، پژمردہ۔

عش: ۱۔ عَشَّ ـُ عَشًّا الشئَ: کو جمع کرنا۔ ـ الطائرُ: پرندہ کا گھونسلے میں رہنا۔ عَشَّشَ الطائرُ: پرندہ کا گھونسلا بنانا۔ إعْتَشَّ: گھونسلا بنانا۔ العَشّ والعُشّ جمع عِشَاش وعِشَشَة وأعشاش و عشوش: گھونسلا۔ المُعَشَّش (مفع): وہ جگہ جہاں پرندہ گھونسلا بناتا ہے۔

۲۔ عَشَّ ـــُ عَشًّا القميصَ: قمیض کی مرمت کرنا۔ إنْعَشَّ الثوبُ: کپڑے کا پیوند والا ہونا۔

۳۔ عَشَّ ـــُ عَشًّا الشئَ: کو حاصل کرنا۔ المَعَشّ: درخواست، مطلب۔

۴۔ عَشَّ ـُ عَشًّا المعروفَ: تھوڑی سی مہربانی کرنا۔ ـ ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا کم ٹہنوں والا ہونا۔ ـــ عُشُوشَةً وعَشَاشَةً وعَشَشًا البدنُ: بدن کا لاغر ہونا صفت: عَشّ۔ عَشَّشَت التجلةُ: کھجور کے درخت کا کم ٹہنیوں والا ہونا۔ أَعَشَّ البدنَ: جسم کو کمزور کرنا۔ ـــ الرجُلُ: کم درختوں والی سخت زمین میں پہنچنا۔ اِعْتَشَّ البدنَ: بدن کو لاغر کرنا۔ العَشّ (مص): تھوڑی بخشش تھوڑی عطا۔ رجُلٌ عَشٌّ: کمزور بدن والا مرد۔ العَشَّة: کم شاخوں والا کھجور کا درخت، خراب جگہ میں اگا ہوا درخت، کم درختوں والی زمین۔

۵۔ عَشَّشَ الكلاءُ: گھاس کا خشک ہونا۔

۶۔ أَعَشَّ فلانًا عن الامر: کو سے روکنا، باز رکھنا۔ ـــ الظبيَ: ہرن کو بھٹ سے نکالنا۔

☐ عَشَّشَ: گھونسلا بنانا، جڑ پکڑنا۔ مستحکم ہونا۔ قائم ہونا۔ آباد ہونا۔ إعْتَشَّ: گھونسلا بنانا۔ عُشّ جمع عِشَاش وأعْشَاش وعِشَشَة: گھونسلا آشیانہ۔ عُشّة وعِشّة جمع عُشَش و عِشَش: جھونپڑا، جھونپڑی، چھپر،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

گنج، گنجلہ۔

عشب: ۱۔ عَشِبَ ۔ عَشَبًا و عَشُبَ ۔ عُشَابَةً المکانُ: جگہ کا سبز گھاس والی ہونا۔ صفت عَاشِب۔ عَشَّبَ المکانُ: جگہ کا سبز گھاس اگانا۔ أَعْشَبَ القومُ: سبز گھاس پر پہنچنا۔ کہتے ہیں: أَعْشَبْتَ (فانزل): تم ہرے بھرے مقام پر پہنچ گئے۔ تو اتر پڑو۔ — المکانُ: جگہ کا سبز گھاس کا اگانا۔ تَعَشَّبَ و اِعْتَشَبَ: سبز گھاس چرنا، موٹا ہونا۔ اِعْشَوْشَبَ: سبز گھاس پر پہنچنا۔ — المکانُ: کسی جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ ارضٌ عَاشِبَة: بہت سبز گھاس والی زمین۔ العَشَابَة: سبز گھاس کی بہتات۔ العُشْب جمع أَعْشَاب (واحد عُشْبَة) سبز گھاس۔ العشِب و العشیب و المُعْشِب و المِعْشَاب: سبز گھاس والی جگہ، بہت گھاس والی جگہ۔ ارضٌ عَشِبَةٌ و عَشِیبَةٌ و مُعْشِبَةٌ و مِعْشَاب: بہت گھاس والی سرزمین۔ العَشَّاب: سبز گھاس والا، سبزی والا۔ التَّعَاشِیب: سبز گھاس کے متفرق قطعات

۲۔ عَشِبَ ۔ عَشَبًا الخبزُ وغیرُہ: روٹی وغیرہ کا خشک ہونا۔

۳۔ عَشُبَ ۔ عَشَابَة و عُشُوبَة الرجُلُ: پستہ قد اور بدصورت ہونا صفت عَشَبٌ مذکر کے لئے عَشَبَة مونث کیلئے العَشَبَة: بڑھاپے کی وجہ سے ٹیڑھی کمر والا مرد یا عورت۔

ⓒ عَشِبَ ۔ و عَشُبَ ۔ و عَشَّبَ: (زمین) کا گھاس دار ہونا، گھاس سے ڈھکی ہونا۔

عُشْب: (اسم جمع) واحد عُشْبَة جمع أَعْشَاب: (سبز) گھاس، نباتات، سبزہ چارہ، پودے، چراگاہ کی گھاس۔ عُشْبَة: پودا، بوٹی، جڑی بوٹی، عُشْبِی: جڑی بوٹی کا (سا)، جڑی بوٹی سے متعلق، نباتاتی پودے کا، پودے سے متعلق، (مرکبات میں)

عَشِب: سرسبز گھاس دار، وافر، فراواں، کثیر، بہت گھاس والا۔ عَشَابَة: بافراط روئیدگی، نباتات، پھل پودے، مُعْشِب: گھاس دار سرسبز، وافر گھاس، بہت گھاس والا۔

عشر: ۱۔ عَشَرَ ۔ عَشْرًا: دس میں سے ایک لینا، نو پر ایک بڑھانا۔ — القومَ: قوم کا دسواں ہونا۔ — الناقة: اونٹنی کا دس ماہ کی حاملہ ہونا۔ — عَشْرًا و عُشُورًا المالَ: مال کا دسواں حصہ لینا۔ — القومَ: قوم کے مال کا دسواں حصہ لینا، قوم کا دسواں ہونا، ان میں سے ایک لینے سے نو ہو جانا۔ عَشَّرَ المالَ: مال کا دسواں حصہ لینا۔ — القومَ: قوم کے مال کا دسواں حصہ لینا، قوم کا دسواں ہو جانا، ان میں سے ایک لینے سے نو ہو جانا۔ — ت الناقةُ: اونٹنی کا دس ماہ کی حاملہ ہونا۔ — الحمارُ: گدھے کا دس بار رینگنا اسی سے ہے عربوں کے ہاں تعشیر، ان کا خیال تھا کہ جب کوئی شخص کسی گاؤں میں جانے کا ارادہ کرتا جس میں وباء کا خطرہ ہوتا تو گاؤں کے دروازے پر دس بار پکارنے سے وبا اس کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ أَعْشَرَ العددَ: کو دس کر دینا۔ — القومُ: دس ہو جانا۔ — ت الناقةُ: اونٹنی کا دس ماہ کی حاملہ ہونا۔ العِشْر جمع أَعْشَار: دس وال حصہ، اونٹوں کا دسویں یا نویں دن گھاٹ پر جانا۔ العُشْر جمع عُشُور و أَعْشَار: دسواں حصہ۔ العَشَرَة جمع عشرات: دس (مذکر کے لئے) کہتے ہیں۔ عَشَرَةُ رجال: دس مرد، مونث کے لئے کہتے ہیں۔ عشر نساء: (دس عورتیں) گیارہ اور بارہ کیلئے اگر معدود مذکر ہو تو اَحَدَ عَشَرَ اور مونث ہو تو اِحدَی عَشَرَةَ کہیں گے اور اسی طرح بارہ کیلئے اگر معدود مذکر ہو تو اثنا عَشَرَ اور مونث ہو تو اِثنتا عشرة: کہیں گے اور معدود واحد منصوب لایا جائیگا جیسے اَحَدَ عَشَرَ رجلاً و احدی عشرة امرأة: گیارہ مرد، گیارہ عورتیں تیرہ سے ۱۹ تک معدود تو واحد منصوب ہی رہیگا لیکن مذکر کیلئے پہلا جز مونث اور دوسرا مذکر لایا جاتا ہے۔ جبکہ معدود مونث کے لئے پہلا جز مذکر اور دوسرا مونث جیسے خَمسةَ عَشَرَ رجلاً اور خَمسَ عَشَرَةَ امرأةً۔ العشرون (ع ح): بیس (مذکر و مونث) عشرون رجلا او امرأة و عشرین رجلاً او امرأةً (بیس مرد، بیس عورتیں) العَاشِر (فا) جمع عُشَّر م عاشِرة جمع عَوَاشِر: دسواں، دسویں دن گھاٹ پر جانے والا اونٹ۔ العاشور و العاشوراء و العاشوری و العَشُورَی: ماہ محرم کی دسویں تاریخ، کہتے ہیں۔ جاؤا عُشَارَ أو مَعْشَرَ: وہ دس دس (کرکے) آئے۔ (یہ دونوں کلمے وصفیت اور عدل کی بنا پر غیر منصرف ہیں)۔ عُشَارَةُ الشیٔ: چیز کا دسواں حصہ۔ ثوبٌ عُشَارِیٌّ: دس گز لمبا کپڑا۔ غلامٌ عُشَارِیٌّ: دس سال کا لڑکا۔ العَشَّار: دسواں حصہ لینے والا۔ عُشر لینے والا۔ الأَعْشَارِی جمع عُشْر: اعشار کی طرف منسوب۔ أَعْشَارِی (Decimal)۔ العُشَراء من النوق جمع عِشَار و عُشَرَاوَات: آٹھ یا دس ماہ کی حاملہ اونٹنی، وہ اونٹنی جو بچہ جن چکی ہو۔ (جیسے زچگی کی حالت میں عورت جسے نفساء کہتے ہیں)۔ العُشَرِیَّة (ن) ایک درخت جو شمالی امریکا میں اُگتا ہے۔ العَشِیر جمع أَعْشِرَاء: دسواں حصہ۔ المِعْشَار: دسواں حصہ۔

۳۔ عَاشَرَ مُعَاشَرَةً: کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ تَعَاشَرَ و اِعْتَشَرَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ العِشْرَة: دوستی، سماجی باہمی روابط۔ العَشِیر جمع عُشَرَاء: قبیلہ، قریبی، دوست، شوہر، بیوی۔ العَشِیرَة جمع عَشَائِر و عَشِیرات: قبیلہ، خاندان۔ عَشِیرَةُ الرجُلِ: برادران، باپ کی جانب سے قریبی لوگ۔ المَعْشَر جمع مَعَاشِر: جماعت، آدمی کے اہل، جن، انس۔

۴۔ العُشَر: (واحد عُشَرَة) (ن): ایک درخت جس سے گوند نکلتی ہے۔ جنوبی ایشیا، عرب ممالک اور افریقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ الأَعْشَار و العَوَاشِر: پرندے کے اگلے بڑے پر۔ الأَعْشَر: احمق۔ ناقةٌ مِعْشَار: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

ⓒ عَشَرَ ۔ عُشْرًا ہ: سے کا دسواں حصہ اکٹھا کرنا۔ عَشَّرَ: بمعنی عَشَرَ نیز دس حصوں میں تقسیم کرنا۔ عَاشَرَہ: سے قریبی تعلقات ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کے ساتھ رہنا۔ تَعَاشَرَ: ایک ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات ہونا، ایک دوسرے کے ساتھی ہونا۔ عُشْر جمع أَعْشَار و عُشُور: دسواں، دسواں حصہ، عُشر Tilthe عُشْرُ مِعْشَار: ایک سوواں۔ عُشْرِی أعشاری (Decimal) أعْشَاری: اعشاری (Decimal)۔ عِشْرَة: قریبی تعلقات، گہری دوستی، مستقل رفاقت، تعلقات، سماجی باہمی روابط، معیت، رفاقت، صحبت، ساتھ، ازدواجی اتحاد، میاں بیوی کا اتحاد۔ عَشَرَة م عَشَر: دس العَشَر: ماہ محرم کے پہلے دس دن۔ ثَلَاثَةَ عَشَرَ م ثَلاثَ عَشَرَة: تیرہ۔ عَشَرَات: کئی دس، دہیوں، دس سال کی مدتیں، دہ سالہ مدتیں، درجنوں، سکور۔ عَشَّار: عشر اکٹھا کرنے والا (Collector of the tlthe) عَشِیر: جمع عُشَرَاء: ساتھی، دوست، ہم صحبت، عَشِیرة جمع عَشَائر: چھوٹا قبیلہ، برادری، خاندان، رشتہ داری، قریب ترین رشتہ دار، قبیلہ۔ العَشَائِر: بدو، بدوی لوگ، خانہ بدوش عرب۔ حرس العشائر: بدوی پولیس، عشائری: بدوی۔ العُرْفُ العشائری: بدوؤں کا رواج، یا قانونِ رواج۔ مَعْشَر جمع مَعَاشِر: مجموعہ، اجتماع، قوم، فرقہ، گروہ، اتحاد، اخوت، بھائی چارہ، ٹولی، معاشرہ، سماج، سوسائٹی، حلقہ، گروہ، رشتہ داری، یا مَعْشَر الشباب: اے نوجوانو! مِعْشَار: دسواں، دسواں حصہ، مُعَاشَرة: قریبی رفاقت، گہری دوستی۔ تعلق، سماجی تعلقات، باہمی روابط، سماج، ٹولہ، مستقل

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رفاقت، عام لوگ، عوام، خاص وعام۔ مُعَاشِر: ساتھی، دوست، ہم صحبت، رفیق۔

عشز ۱۔ عَشَزَ ۔ عَشَزَانًا: کٹی ہوئی ٹانگ والے کی طرح چلنا۔ ۔ علی عصاہُ: لاٹھی پر ٹیک لگانا۔

۲۔ العَشُوز: جمع عَشَاوِز: دشوار گذار رستہ یا زمین۔ والعَشَوَّز: مضبوط قوی موٹا۔

عشق: عَشِقَ ۔ عِشْقًا و عَشَقًا و مَعْشَقًاۃً: سے بہت محبت کرنا، سے محبت میں حد سے بڑھ جانا، صفت عَاشِقٌ جمع عُشَّاق و عَاشِقُون مونث عاشِقَة و عَاشِق جمع عَوَاشِق ۔ بالشیٔ: سے چمٹنا۔ تَعَشَّقَ: عاشق بننا۔ ۔۔ ۂ: سے بہت محبت کرنا۔ العِشْق (مص): محبت کی زیادتی (پارسائی اور غیر پارسائی دونوں میں) العَشِیق: عاشق، معشوق۔ العَشَاق و العِشِّیق: بہت زیادہ عشق کرنے والا۔

○ عَشِقَ ۔ عَشَقًا ۂ: سے جذباتی طور پر محبت کرنا۔ عَشَّقَ ۂ: پر ٹھیک بٹھانا، فٹ کرنا، کے ساتھ باہم جوڑنا، چول سے چول جوڑنا، کو مربوط کرنا، جوڑنا، ملانا۔ تَعَشَّقَ ھا: (عورت) سے عشق بازی کرنا، سے معاشقہ کرنا، عَشِیق: عاشق، محبوب۔ عَشِیقَة: محبوبہ۔ عِشِّیق: عاشق۔ تعشیق: جوڑنا، ملانا۔ مَعْشُوق: عاشق، محبوب۔ مَعْشُوقَة: محبوبہ، عَاشِق جمع عاشِقون و عُشَّاق: عاشق۔ شائق، شوقین۔

عشم: ۱۔ عَشِمَ ۔ عَشَمًا و عُشُومًا و تَعَشَّمَ الشیٔ: خشک ہونا۔ خبزٌ عَشَمٌ: خشک، سوکھی یا خراب روٹی۔ العَشَمَة: خشک روٹی، لاغری کی وجہ سے خشک، پیر فرتوت (مذکر و مونث) کہتے ہیں۔ شیخٌ عَشَمَةٌ و عجوزٌ عَشَمَةٌ۔ خبزٌ عَیْشَم: سوکھی یا خراب روٹی۔ الأعْشَم م عَشْمَاء: سوکھا درخت، عمر رسیدہ بوڑھا۔

۲۔ العَشَم: لالچ۔ العَشَمَة: لالچ الأعْشَم م عَشْماء: دو آپس میں ملے ہوئے رنگ۔

عشن: عَشَنَ ۔ عَشْنًا و عَشَّنَ و أعْشَنَ: انکل سے بات کہنا، قیاس آرائی کرنا۔ إعْتَشَنَ: قیاس آرائی کرنا، رائے لگانا۔ ۔ فلانًا: پر ناحق حملہ کرنا۔ العُشْمان: گری ہوئی خراب کھجوریں۔ العُشَانَة: گری ہوئی خراب کھجوریں، کھجور کی شاخ کی جڑ۔

عشا ۱۔ عَشَا ۔ عَشْوًا: رتوندے والے کی طرح کام کرنا، کی نگاہ کا کمزور ہونا۔ دن کو دیکھنا اور رات کو نہ دیکھ سکنا صفت عَشٍ و أعْشَی ۔ الابلَ: اونٹوں کو رات کے وقت چرانا۔ ۔ الرجلَ: کے پاس رات کو جانا۔ ۔ ہ والیہ: کے پاس جانا اور بخشش طلب کرنا۔ ۔ عنہ: سے اعراض کرنا اور دوسرے کی طرف مائل ہونا۔ ۔۔ عَشْوًا و عُشُوًّا النارَ و الی النار: رات کو آگ دیکھ کر راستہ پوچھنے یا مہمانی کی امید میں اس کی طرف چلنا۔ ۔۔ عَشْوًا و عَشْیًا الرجُلَ: کو رات کا کھانا کھلانا۔ عَشِیَ یَعْشَی عَشًا: دن اور رات کو نظر کا کمزور ہونا یا دن کو دیکھنا اور رات کو نظر نہ آنا۔ صفت: عَشٍ و أعْشَی۔ ۔۔ العشاءَ: رات کا کھانا کھانا صفت عَشْیَان۔ ۔ ت الابلُ: رات میں اونٹوں کا چرنا، صفت: عَاشِیَة جمع عَوَاشٍ۔ ۔۔ علیہ: پر ظلم کرنا۔ عَشَّی تَعْشِیَةً الطیرَ: آگ روشن کر کے پرندوں کو اندھا بنا کر شکار کرنا۔ ۔۔ الابلَ: اونٹوں کو رات کے وقت چرانا۔ ۔۔ الرجُلَ: کو رات کا کھانا کھلانا۔ أعْشَی إعْشَاءً الرجُلَ: کو رات کا کھانا کھلانا، کو دینا، عطا کرنا۔ اللّٰہ الرجُلَ: اللہ کا کسی کو رتوندے میں مبتلا کرنا۔ تَعَشَّیٰ: رات کا کھانا کھانا، تَعَاشَی تَعَاشِیًا: اپنے آپ کو رتوندے والا ظاہر کرنا۔ ۔۔ عنہ: جاہل بننا۔ إعْتَشَی اعتشاءً: عشاء کے وقت چلنا۔ ۔۔ النارَ: رات کے وقت آگ دیکھ کر اس کی طرف جانا۔ اسْتَعْشَی إسْتِعْشَاءً الرجُلَ: کو ظالم پانا۔ ۔ نارًا: آگ کی روشنی میں راہ پانا۔ العَشَاء والعَشَاوَة: نگاہ کی کمزوری، دن اور رات کو یا صرف رات کو، رتوندی، شب کوری۔ العَشَاء جمع أعْشِیَة: شام کا کھانا۔ العشاء: رات کی ابتدائی تاریکی، بقول بعض غروب آفتاب سے شام کے دھندلکے تک کا وقت یا دن کا آخری حصہ۔ العشائان: غروب آفتاب اور شام کا دھندلکا۔ (رات کی تاریکی)۔ العَشْواء جمع عُشْی: أعشی کا مونث۔ شب کور (جسے رات کو نظر نہ آتا ہو، رات کی اندھی)، تاریکی، اونٹنی، جس کو سامنے کچھ نظر نہ آئے۔ کہتے ہیں۔ ھو یخبط خبطَ عشواءَ وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے۔ ھو اخبطُ من عَشْواءَ: وہ اس اونٹنی سے بھی زیادہ اندھا ہے جس کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی۔ انھم لفی عشواءَ من امرھم: وہ اپنے معاملہ میں حیران ہیں اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ رَکِبَ العَشْوَاء: وہ ٹامک ٹوئے مارنے لگا۔ العُشْوَة والعِشْوَة: آگ کا شعلہ جو رات کے وقت دور سے دکھائی دے اور دیکھنے والا اس کی طرف چل پڑے۔ انکل بازی سے کام کرنا، کہتے ہیں أوْطَأہُ عُشْوَةً: اس نے اسے ایک امر مشتبہ میں پھنسا دیا۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی ایسی اطلاع دے جسے سن کر انسان حیرت اور مصیبت میں پڑ جائے۔ العَشْوَة: تاریکی، رات کا پہلا چوتھائی حصہ، کہتے ہیں۔ رأیتہ فی عَشْوَة العتمة و فی عشوۃِ السَحر: میں نے اسے رات کی پہلی چوتھائی کی تاریکی میں دیکھا یا فجر کی تاریکی میں دیکھا، انکل سے کام کرنا، کہتے ہیں۔ اوْطَأہُ عَشْوَةً: اس نے اسے ایک مشتبہ معاملہ میں پھنسا دیا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص ایسی اطلاع دے جو اسے حیرت اور مصیبت میں ڈال دے۔ العِشی: رات کا کھانا۔ العَشِیّ: رات کی ابتدائی تاریکی۔ بعیرٌ عَشِیّ: رات کو دیر تک چرنے والا اونٹ۔ العَشِیَّة: جمع عَشِیّ و عَشَایَا و عَشِیَّات۔ (نسبت میں کہیں گے عَشَوِیّ): شام۔ بادل۔

۲۔ عَشَّی تَعَشِیَةً عن الشیئ: سے نرمی برتنا۔ پر مہربانی کرنا۔

۳۔ العَشْوَاءُ: کھجور، درخت خرما۔

○ عَشَا ۔ عَشْوًا و عَشِیَ ۔ عَشًا: دھندلی نظر والا، شب کور ہونا۔ عَشَّی ہُ: کی نظر کو دھندلا کرنا۔ شب کور کرنا، کو شام کا کھانا کھلانا۔ أعْشَی ہ: کی نظر کو دھندلا کرنا۔ ۔۔ ہ: آنکھوں کو دھندلا کرنا۔ تَعَشَّیٰ: شام کا کھانا کھانا۔ عَشَا: ضعف بصر، شب کوری۔ عَشِی: شام۔ عَشَاء جمع أعشِیَة: شام کا کھانا۔ عِشَاء: شام۔ شام کی نماز (مونث)۔ عَشْوَة: تاریکی، شام کا کھانا۔ عَشَاوَة: ضعف بصر۔ شب کوری۔ عَشِیّة جمع عَشِیَّات و عَشَایَا: شام جس وقت دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ عشیةَ أمْسِ: گزشتہ شب، گزشتہ شام بین عَشِیَّةٍ و ضُحَاھا: ایک سے دوسرے دن تک، راتوں رات، اچانک، یکا یک، ایکا ایکی، دفعۃً۔ عَشْوَاء: تاریکی۔ نیز دیکھئے أعْشَی ۔ أعْشَی م عَشْوَاء: ضعیف البصر، شب کور، اندھا، بے مقصد، اتفاقی، بے ترتیب، بے، بے مقصد، اتفاقی، بے ترتیب، بے نظام، غیر منظم، بیوقوف، احمق، یَخْبِط خَبْطَ عَشْواءَ: وہ اندھا دھند کام کرتا ہے، بے سوچے سمجھے، انکل سے اور بے مقصد، غیر منظم طور پر کام کرتا ہے۔

عص: عَصَّ ۔ عَصًّا و عَصَصًا: سخت ہونا۔ عَصَّص علی غریمہ: قرضدار سے اصرار کرنا۔ العَصّ (مص): جڑ، کہتے ہیں ھو کریم العَصّ: وہ شریف النسل ہے۔ العُصَص والعُصُص: دم کی ہڈی۔

۲۔ العُصْعُص: مضبوط جسم کا (آدمی) بے خیر۔ ۔۔ والعَصْعَص جمع عَصَاص و العُصعُوص جمع عَصَاعِیص: دم کی ہڈی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عصب: ا۔ عَصَبَ ـِ عَصْبًاء الشئَ: کو باندھنا۔ لپیٹنا۔ موڑنا۔ ـــ القطنَ: روئی کاتنا۔ الناقۃَ: دو ہنے کے لئے اونٹنی کی رانیں باندھنا۔ ـ القومُ به لوگوں کا کسی کے پاس جمع ہونا اور اسے حلقہ میں لینا۔ ـــ الریقُ بالفم: تھوک کا منہ پر خشک ہو جانا۔ ـــ الغبارُ رأسَهُ: سر کا گرد و غبار سے اٹنا۔ الرجُلُ بیتہ: گھر میں اقامت اختیار کر لینا اور باہر نہ نکلنا۔ ـ عَصْبًا و عِصَابًا الشئَ: کو گرفت میں لینا۔ عَصِبَ ـَ عَصَبًا اللحمُ: گوشت کا زیادہ پٹھوں والا ہونا۔ صفت عَصِب ـ ـ القومُ به: لوگوں کا کسی کے گرد جمع ہونا اور اسے حلقہ میں لینا۔ عَصَّبَ هُ: کو پٹی باندھنا، بھوکا رکھنا۔ فلاناً: کو سردار بنانا۔ أَعْصَبَ ت الابلُ: اونٹوں کا تیز چلنا۔ تَعَصَّبَ: پٹی باندھنا۔ سردار ہونا۔ تعصب سے کام لینا ـــ لَهُ و مَعَهُ: کی طرف میلان رکھنا اور اس کی بھر پور مدد کرنا۔ ـ علیه: کا مقابلہ کرنا اور اس کیخلاف عصبیت دکھلانا۔ ـــ فی دینه و مذهبه: اپنے دین اور مسلک میں غیور ہونا اور ان کا تحفظ کرنا۔ اِعْتَصَبَ التاجُ علی رأسه: تاج کا سر پر ٹھیک بیٹھنا۔ ـــ المَلِكُ: بادشاہ کا تاج پہننا۔ ـ القومُ: قوم میں گروہ بندی ہونا۔ اعتصبوا عن العمل او عن الطعام: وہ کام نہ کرنے یا کھانا نہ کھانے میں ایک گروہ بن گئے۔ اس کا اسم الاعتصاب ہے۔ اِنْعَصَبَ الشئُ: چیز کا سخت ہونا۔ اِعْصَوْصَبَ الشرُّ: برائی کا شدت اختیار کرنا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا مجتمع ہونا اور گروہ در گروہ ہونا۔ العَاصِب فا: رجُلٌ عَاصِبٌ: وہ شخص جس کے منہ پر تھوک خشک ہو گیا ہو۔ العَصْب (مص): عمامہ پگڑی، ایک قسم کی چادر، العَصَب (مص) جمع أعصاب (ع ا): نس، پٹھا، عضلہ، منتخب لوگ (ن) عشق پیچاں (ایک پودا)۔ العصبة من الرجال والخیل و الطیر جمع عُصَب: گروہ (آدمیوں، گھوڑوں اور پرندوں کا)۔ العِصْبَة: پٹی باندھنے کی ہیئت العَصَبَة جمع عَصَبَات: عَصَب کا واحد، حمایتی لوگ، العِصَاب (مص): رسی، جو باندھنے کے کام آتی ہے۔ پٹی۔ العِصَابَة جمع عَصَائب: پگڑی، پٹی، مردوں یا گھوڑوں یا پرندوں کا گروہ۔ العَصَبِیّ: متعصب۔ العَصَبِیّة: دھڑے بندی۔ عَصَبِیَّاتُ الأجنحة (ح): کیڑے مکوڑے کی ایک قسم۔ العَصِیب جمع عُصُب و أَعْصِبَة: پھیپھڑا، جو آنتوں کے ساتھ باندھ کر بھونا جاتا ہے۔ یوم عَصِیبٌ: سخت گرم دن۔ التَعَصُّب (م) جمع تَعَصُّبَات: تعصب، دلیل ظاہر ہونے کے بعد بھی حق بات کو نہ

ماننا۔ المُعَصَّب (مفع): تاج دار، سردار، بھوکا، مفلس۔ المَعْصُوب (مفع): سخت بھوکا، کہتے ہیں۔ فلانٌ خِوانُهُ منصوبٌ و جارُهُ مَعْصُوبٌ: فلاں کا دستر خوان بچھا ہوا ہے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ رجُلٌ معصوبُ الخلق: مضبوط بناوٹ والا۔ پر گوشت، مرد۔

۲۔ عَصَبَ ـِ عَصْبًا و عُصُوبًات الاسنانُ: دانتوں کا میلا ہونا۔

۳۔ عَصَبَ ـِ عَصْبًا و عُصُوبًا الافقُ: کنارۂ آسمان کا سرخ ہونا۔

۴۔ عَصَّبَهُ: کو ہلاک کرنا۔

۵۔ تَعَصَّبَ بالشئ: سے راضی ہونا۔ اِعْتَصَبَ بالشئ: پر قناعت کرنا اور راضی ہونا۔

۶۔ المَعْصُوب: باریک تلوار۔

۷۔ العَصَبْصَب: سخت گرم دن۔ یا سخت دن۔

(ج) عَصَبَ ـِ عَصْبًا ه علی: کو کے گرد لپیٹنا۔ باندھنا۔ ـــ ه: پر پٹی باندھنا، کو لپیٹنا۔ تہ کرنا۔ ـــ ه (سر پر) کچھ لپیٹنا، عصب الریقُ فاه تھوک اس کے منہ میں خشک ہو گیا۔ تھوک نے اس کا منہ بند کر دیا۔ عَصَّبَ ه: کے گرد لپیٹنا، باندھنا۔ ـ ه: کی پٹی کرنا۔ ـ ه (سر پر) کچھ لپیٹنا۔ تَعَصَّبَ: اپنے سر کے گرد پگڑی لپیٹنا، یا سر پر پگڑی باندھنا، پگڑی پہننا۔ اپنے آپ کو پٹی باندھنا۔ ـــ مع / ل: کا ساتھ دینا، کی طرفداری کرنا، کی جانبداری کرنا، کی حمایت کرنا۔ ـــ علی: کے خلاف کسی دوسرے کا ساتھ دینا، یا اس کی طرفداری اور جانبداری کرنا، کی مخالفت کرنا۔ ـــ ل: سے ضد یا تعصب کی بنا پر وفاداری کرنا۔ ـــ متعصب ہونا، کٹر ہونا، جوشیلا حامی ہونا، کوئی جماعت، ٹولی، منڈلی، جتھا، گروہ، ٹیم یا اتحاد بنانا۔ ـ علی: کے خلاف سازش کرنا، اِعْتَصَبَ: جماعت بنانا، ٹولہ، منڈلی یا جتھا بنانا، گروہ بنانا، ٹیم بنانا، اتحاد بنانا، ہڑتال کرنا۔ عَصَب جمع اعصاب: پٹھا، نس، عصبی: اعصابی، زیادہ حساس، اشتعال پذیر، عصبی المزاج: اعصابی، جلد گھبرا جانے والا، اعصابی کمزوری کا مریض۔ الجهاز العصبی: اعصابی نظام، نظام اعصاب۔ حالة عصبية: جلد گھبرانے کی حالت، الضعف العصبی: اعصابی کمزوری۔ عَصَبِیّة: اشتعال پذیری، حد سے زیادہ حساسیت، جمع عَصَبِیات: پر جوش اور سرگرم کٹر پن، تعصب، پارٹی سپرٹ، ٹیم سپرٹ، قبائلی اتحاد، قبائلیت، نسلی عصبیت، قبائل عصبیت، قومی شعور، قوم پرستی، وطن پرستی عَصَبَة جمع

عَصَبَات و عُصْبَة جمع عُصَب: یونین، لیگ، فیڈریشن، ایسوسی ایشن، گروہ، ٹولہ، منڈلی، جتھا۔ عَصَبَة: باپ کی جانب سے رشتہ دار، رشتہ داری عُصْبَةُ الأُمَم: The league of National تنظیم اقوام۔ عَصِیب: گرم، نازک (وقت، مرحلہ) تشویشناک (وقت، مرحلہ) عِصَاب: پٹی۔ عِصَابَة جمع عصائب: پٹی، سر پر رکھنے کا کوئی کپڑا۔ سر کی پٹی، سنگار پٹی، جمع عِصَابات: یونین، لیگ، فیڈریشن، ایسوسی ایشن، گروہ، جتھا، ٹولہ، منڈلی۔ عِصَاباتُ الخَطْفِ: ڈاکوؤں کا جتھا، حربُ العِصَابات: گوریلا جنگ، گوریلا لڑائی، تَعَصُّب تعصب، متعصبانہ جوش، پارٹی سپرٹ، طرفداری، جانبداری، کٹر پن، قبائلیت، نسلی تعصب، قومی شعور، قبائلی عصبیت، اعتصاب جمع اعتصابات: ہڑتال (Strike) مُتَعَصِّب ل: کے لئے متعصبانہ طور پر سرگرم، پرجوش، جوشیلا پرجوش، سرگرم، کٹر، متعصب۔

عصد: عَصَدَ ـِ عَصْدًا الشئَ: کو موڑنا، گرہ دینا، کہتے ہیں۔ عصده علی الامر یعنی اس نے اسے کام پر مجبور کیا۔ ـــ عُصُورًا الرجُلُ: مر جانا۔ اَعْصَدَ الشئَ: کو موڑنا، گرہ دینا۔ العصید: موڑا ہوا، گرہ لگایا ہوا۔ العَصِیدَة (ط): آٹے اور گھی کا دلیا بنا کر پکایا ہوا ایک کھانا۔

عصر: ا۔ عَصَرَ ـِ عَصْرًا العنب او الثوبَ و غیرهما: انگور یا کپڑے وغیرہ کو نچوڑنا۔ ـ الدُمَّلَ: پھوڑے کو بھینچ پیپ نکالنا۔ ـ الرکضُ الفرسَ: دوڑ کا گھوڑے کو پسینہ لانا۔ عَصَّرَ الشئَ: کسی چیز کو بار بار نچوڑنا۔ أُعْصِرَ القومُ: قوم پر بارش برسائی جانا۔ تَعَصَّرَ: نچوڑا جانا۔ اِعْتَصَرَ العنبَ او او الثوبَ و نحوهما: انگور یا کپڑے وغیرہ کو نچوڑنا۔ ـ العصیرَ: رس بنانا۔ من فلانٍ مالاً: سے تاوان کے طور پر یا کسی اور طریقہ سے مال لینا۔ ـ من الشئ: چیز لینا۔ اِنْعَصَرَ: نچوڑا جانا۔ ـ العنبُ و نحوه: انگور وغیرہ کا رس نکلنا۔ العَاصِر جمع عَصَرة و عَاصِرون م عَاصِرة و عَوَاصِر و عاصِرات (فا): نچوڑنے والا۔

العَصَرة: عاصر کی جمع۔ العُصَار: رس۔ العُصَارة: رس، نچوڑ، کہتے ہیں۔ رجُلٌ کریمُ العُصَارة: سخی (سوال کئے جانے پر)۔ عُصَارَةُ النبات: عرق، پودوں سے نکلنے والا دودھ۔ العصیر: نچوڑا ہوا۔ ـــ والعَصِیرة: رس المَعْصَر والمَعْصَرَة جمع مَعَاصِر: نچوڑنے کی جگہ کہتے ہیں۔ هو کریم المَعْصَر: وہ سوال کے وقت سخی ہے المِعْصَر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والمِعْصَرة: انگور وغیرہ کے نچوڑنے کا آلہ۔ المُعْصَار: وہ چیز جس میں کوئی چیز نچوڑی جائے۔ المُعْصِرات: بادل۔

۲۔ عَصَر ـِ عَصْرًا الشیءَ عنه: کو سے روکنا۔ ـ فلانًا: کو قید کرنا۔ اِعْتَصَر علیه: سے بخل کرنا۔ کہتے ہیں اعتصرُ بالماء ما غصَّ به من الطعام: کھانے کو حلق سے نیچے اتارنے کیلئے تھوڑا پانی پینا۔ رجُلٌ عَاصِرٌ جمع عَصَرة و عاصِرُون م عاصِرَة جمع عَوَاصِر و عاصِرات: بے خیر، بخیل۔

۳۔ عَصَرَ ـِ عَصْرًا فلانًا: کو عطیہ دینا۔ اِعْتَصَر العطِیَّةَ: عطیہ واپس لینا۔ العَصْر جمع أَعْصُر وعُصُور: عطیہ۔

۴۔ عَصَّر الزرعُ: کھیتی کا خوشے نکالنا۔ تعَصَّر به: کی پناہ لینا۔ اِعْتَصَر بفلان: کی پناہ لینا۔ العُصْرُ و العَصَر و العُصْرة و المُعْتَصَر: پناہ گاہ، جائے نجات۔

۵۔ عَصَرَت المرأةُ: عورت کا بالغ ہونا، حائضہ ہونا۔ عَاصَرَ مُعَاصَرةً: کا ہم عصر ہونا۔ اَعْصَرت المرأة: عورت کا بالغ ہونا یعنی عہد شباب میں داخل ہونا صفت: مُعْصِر جمع مَعَاصِر ومَعَاصِیر۔ العَصَر جمع أَعْصُر وعُصُور: رشتہ دار، قبیلہ، گروہ، کہتے ہیں: تَوَلّی عَصَرُہُ: اس کے رشتہ دار حاکم ہوگئے۔ ـــ والعِصْر و العُصُر جمع عُصُور وأَعْصُر وعُصُر وأعصار اور اعصار کی جمع أعاصِر: زمانہ۔ العُصُر: زمانہ۔ العِصَار: وقت۔ العَصْرِیّ: عصر سے منسوب، زمانہ کا، زمانہ کے طور طریقوں پر چلنے والا۔ العَصْرِیَّة: عَصْرِی کا مونث۔ نئے نظریے، جدید خیالات، جدت پسندی۔

۶۔ أَعْصَرَ: وقت عصر میں داخل ہونا۔ العَصْر جمع أَعْصُر وعُصُورا: دن، صبح، رات، آفتاب کے سرخ ہونے تک دن کا آخری حصہ کہتے ہیں: جاءَ نی عَصْرًا: وہ دیر سے آیا۔ العَصْرانِ: صبح وشام، رات اوردن۔ العَصْرِیَّة عند العامة: عصر کے وقت رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے منعقد کیا جانے والا اجتماع، خواہ جوابی ملاقاتوں کیلئے ہو یا جی بہلانے یا وقت گزاری کے لئے ہو۔

۷۔ أَعْصَرَتِ الریحُ: ہوا کا اپنے ساتھ بگولا لانا۔ العَصَرة: گردوغبار، بگولہ۔ العِصار: سخت گردوغبار۔ الإعصار جمع أعَاصِر و أعاصِیر: آندھی۔ بگولہ۔ گردوباد، طوفان بادوباراں۔ کہتے ہیں۔ وعدُہٗ إعصارٌ لیس بعدَہٗ اعصار: اس کے وعدہ کے لئے وفا نہیں۔ اس قول میں پہلا اعصار بمعنی بگولہ اور دوسرا۔ أَعْصَرَ القومُ بمعنی بارش ہونا کا مصدر ہے۔

۸۔ العَصَر و العَصَرة: خوشبو کی مہک۔

○ عَصَرَ ـِ عَصْرًا ہ: (کوئی چیز جیسے انگور وغیرہ کو دبانا، نچوڑنا، بھینچنا، نچوڑ کر رس نکالنا، (کپڑے وغیرہ سے) پانی نچوڑنا، کسی چیز کو بھینچنا، دبانا۔ عَاصَرَہٗ: کا ہم عصر ہونا۔ ـــ ہ: کا ہم عصر، ہم عہد ہونا، کا معاصرانہ ہونا، کا ہم مدت ہونا، کا جوڑ ہونا، کو مستلزم ہونا۔ تَعَصَّرَ: نچوڑا جانا، نچوڑ کر رس نکالا جانا۔ اِعْتَصَرَ ہ: کو نچوڑنا، کو بھینچ کر رس نکالنا۔ اِعْتَصَر جبینَہٗ: بھویں سکیڑنا۔ عَصْر: دبانا، بھینچنا، نچوڑنا، جمع اَعْصُر وعُصُور و اَعْصَار: عہد، زمانہ، دور، وقت، عرصہ، سہ پہر، تیسرا پہر، (مونث) نماز عصر۔ العصر الحجری: پتھر کا زمانہ، حجری دور (The stone age) العصر الحاضر: عصر حاضر، دور حاضر، ہمارا زمانہ (The present age) فی کل عَصْرٍ و مَصْرٍ: ہمیشہ اور ہر جگہ، کسی وقت اور کسی جگہ۔ عَصْرِی: عصر حاضر کا، موجودہ زمانہ کا، جدید، تازہ ترین، نیا، ہم عصر، ہم زمانہ، حقیقی واقعی، ہم عصر، معاصرانہ، ہم عصری، اس زمانہ کا جمع عصریون: ہم عصر لوگ۔ عَصْرِیَّة: نئے نظریے، جدید خیالات، جدت پسندی، مذہب میں عقلیت پسندی۔ عَصِیر: نچوڑا ہوا، بھینچا ہوا، دبایا ہوا، رس، نچوڑ، افشردہ، بہترین۔ عَصِیرة: رس عُصَار: رس، عرق۔ عُصَارَة جمع عُصَارات: رس، عرق۔ عَصَّارَة جمع عَصَّارات: دباؤ، شکنجہ، دبانے کی چیز، نچوڑنیوالی چیز، تیل نکالنے کا کولہو۔ گنے کا رس نکالنے کا بیلنا۔ عَصَّارة القصب: گنے کا رس نکالنے کا بیلنا، نچوڑنے والا۔ عَصَارِیَ یوم: ایک سہ پہر (کو)۔ اِعْصَار جمع أَعاصِیر: بگولا، گردباد، طوفان، سخت آندھی، زور کی آندھی، طوفانی بگولہ، طوفانی گردباد، طوفانی بادو باراں۔ مِعْصَرة جمع مَعَاصِر: نچوڑنے کا آلہ، کولہو، گنے کا رس نکالنے کا بیلنا۔ مُعَاصِر: ہم عصر، ہم زمانہ، ہم عہد۔

عصف: ۱۔ عَصَفَ ـِ عَصْفًا و عُصُوفًا ت الریحُ: ہوا کا تندوتیز ہونا۔ صفت عَاصِفَة و عَاصِف۔ ـ ت الناقةُ براکبھا: اونٹنی کا سوار کو ہوا کی سی تیزی سے لیجانا۔ ـــ الرجُلُ: دوڑنا، تیز چلنا۔ کہتے ہیں۔ عصفت الحربُ بالقوم: لڑائی نے قوم کو برباد اور ہلاک کر دیا۔ عصف الدھرُ ھم بھم: انہیں زمانہ نے ہلاک کر ڈالا۔ أَعْصَفَت الریحُ: ہوا کا تندوتیز ہونا صفت مُعْصِفَة ومُعْصِف جمع مَعَاصِف و مَعَاصِیف۔ ـــ الرجُلُ: ہلاک ہو جانا۔ ـ ت الحربُ بھم: جنگ کا لوگوں کو برباد اور ہلاک کرنا۔ عَصْفُ التبن: بھوسہ کے تنکے۔ ـ الأثمد ونحوہ: سرمہ وغیرہ کا غبار۔ العَصْفَة: عَصْف کا اسم مرۃ۔ شراب کی بو، کہتے ہیں: لھذہ الخمر عَصْفَةٌ طیبةٌ: اس شراب کی بو اچھی ہے۔ یومٌ عَاصِفٌ جمع عوَاصِف: تیز ہوا کا دن العَاصِفَة جمع عَاصِفات و عَوَاصِف: عاصف کا مونث۔ العُصَافَة: کوڑا کرکٹ جسے ہوا اڑا کر لائے، خوشے سے گرنے والے تنکے۔ العَصُوف جمع عُصُف و العَصِیف: تندوتیز ہوا۔

۲۔ عَصَفَ ـِ عَصْفًا و عُصُوفًا الشیءُ: جھکنا، مائل ہونا۔ أَعْصَفَ الرجُلُ: راستے سے ہٹ جانا۔ العَاصِف ف۔ سھمٌ عاصِفٌ: نشانہ سے ہٹا ہوا تیر۔

۳۔ عَصَفَ ـِ عَصْفًا و عُصُوفًا و اِعْتَصَفَ عیالَہٗ: اولاد کے لئے کمانا۔

۴۔ عَصَفَ ـُ عَصْفًا الزرعَ: کھیتی کو پکنے سے پہلے کاٹ لینا۔ أَعْصَفَ الزرعُ: کھیتی کاٹنے کا وقت آجانا۔ اِسْتَعْصَفَ الزرعُ: کھیتی کا تناور ہونا۔ العَصْف (مص): کھیتی کے پتے۔ العَصَفَة: کھیت کے ڈنٹھل پر موجود پتے۔ العَصِیفَة: وہ پتے جن کے درمیان خوشہ ہو۔

۵۔ عَصْفَرَ الثوبَ: کپڑے کو زرد رنگنا۔ تَعَصْفَر الثوبُ: کپڑے کا زرد رنگ کا ہونا۔ العُصْفُر: زرد رنگ، (ن): زعفران۔ کیسر، (Seffron)۔

۶۔ تَعَصْفَرَت العنقُ: گردن ٹیڑھی ہونا۔

۷۔ العُصْفُور جمع عَصَافیر مونث عُصْفُورة: چڑیا، ہر وہ پرندہ جو کبوتر سے چھوٹا ہو۔ وہ لکڑی جس سے پالان کے سرے باندھے جاتے ہیں، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ (ع ا) گھوڑے کی پیشانی کی اٹھی ہوئی ہڈی جو دائیں بائیں دونوں جانب ہوتی ہے۔ کتاب، کشتی کی میخ، سردار کہتے ہیں۔ نَقَّت او صاحت عصافیرُ بطنِه: بمعنی بھوکا ہونا۔ عصفورة الحبل لمبارسہ جس سے بوجھ باندھا جاتا ہے (عام زبان کا لفظ)

○ عَصَفَ ـِ عَصْفًا و عُصُوفًا: (ہوا کا) تندوتیز ہونا، ہوا کا زور سے چلنا، ہوا کا بہت زور کا ہونا، سخت تیز ہونا، عَصَفَ به: کو اڑا لیجانا، کو پوری طرح ہلانا، کو زور زور سے ہلانا، (ہوا وغیرہ کا) عَصْف: ہوا کا تندوتیز ہونا، زور سے چلنا، اناج کا ڈنٹھل، ڈنڈی اور پتے۔ عَصْفَة: ہوا کا جھکڑ، جوش، زور، ہوا کا زور کا جھونکا، عَاصِف: زور زور سے چلنے والا، ریح عاصف یا ریح عاصفة: شدید ہوا، سخت آندھی، جھکڑ۔ عَاصِفَة

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جمع عَوَاصِف: تیز و تند ہوا، سخت آندھی، جھکڑ، طوفان، طوفان باد و باراں۔ عُصْفُر: زعفران۔ کیسر، اس سے تیار کردہ رنگ۔ مُعَصْفَر: زعفران سے رنگا ہوا۔ عَصْفُور جمع عَصَافِیر: چڑیا، گوریا، کنجشک، کوئی چھوٹا پرند۔ عُصْفُور الجنة: ابابیل، عُصْفُور دُوْرِی: گھریلو پڑیا۔ عُصْفُور مُغَنّ: گانے والا پرندہ۔ عُصْفُور کَنَارِی: کناری، جزائر کنیری کی زرد بلبل۔ ضَرَب (اصَابَ) عُصْفُورَیْن بحجرٍ (واحد): ایک پتھر سے دو پرندے مارنا۔ عصفور فی الید خیرٌ من الف علی الشَجَرَۃ: ہاتھ کا ایک پرندہ جھاڑی میں دو پرندوں سے بہتر ہے۔ عُصْفُورۃ: مادہ چڑیا، پن، میخ، کھونٹی، عُصْفُورِیَة: پاگل خانہ۔ (insane asylum)۔

عصل ۱۔ عَصَلَ ـُ عَصْلاً العودَ: لکڑی کو ٹیڑھا کرنا۔ عَصِلَ ـَ عَصَلاً الشیْ: سختی کے ساتھ ٹیڑھا ہونا۔ صفت عَصِل و أَعْصَلُ م عَصِلَة و عَصْلاءُ جمع عِصَال و عُصْل ــ عَصَّلَ السهمُ: تیر کا ٹیڑھا ہونا، دیر کرنا۔ العِصْلَ و العَصَلَ جمع اَعْصَال: آنت۔ المِعْصَال و المِعْصِیل: جمع مَعَاصِیل: ٹیڑھے سر والی لاٹھی۔ جس سے درخت کی ٹہنیوں کو پکڑا جاتا ہے۔ اسے عوام معَقَیْلَة یا باکور کہتے ہیں۔ ڈنڈا۔

۲۔ عَصِلَ ـَ عَصَلاً و أَعْصَلَ: سخت ہونا۔ المِعْصَل: مقروض پر سختی کرنے والا۔

۳۔ عَصْلَبَ: سخت غضبناک ہونا۔ سخت پٹھے والا ہونا۔ العَصْلَب و العُصْلُب و العُصْلُوب و العُصْلُبِیّ: بڑے ڈیل کا مضبوط آدمی۔

Ⓒ عَصَلَ ـُ عَصْلاً ہ کو موڑنا، مروڑنا، ٹیڑھا میڑھا کرنا، عَصِلَ ـَ عَصَلاً: مڑنا، ٹیڑھا میڑھا ہونا (لکڑی کا)۔

عصم ۱۔ عَصَمَ ـِ عَصْمًا الرجُلُ: کمائی کرنا۔

۲۔ عَصَمَ ـِ عَصْمًا الشیْ: کو روکنا۔ القِرْبَةَ: مشک کو رسی سے باندھنا۔ عَصَمَ اللّٰہُ فلانا من المکروہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو شر سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ عَصَمَ الی فلان: کی پناہ لینا۔ أَعْصَمَ من الشرّ: شر سے باز رہنا، پناہ لینا۔ ــ بہ: کو پکڑنا، کے ساتھ رہنا۔ ــ بالفرس: گھوڑے کی ایال پکڑنا۔ ــ القِرْبَةَ: مشک کو رسی سے باندھنا۔ اِعْتَصَمَ بہ: کو ہاتھ سے پکڑنا۔ ــ باللّٰہ: اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گناہ سے باز رہنا۔ ــ من الشرو المَکْرُوہ: برائی اور ناپسندیدہ چیز سے باز رہنا، سے پناہ لینا۔ اِنعصَمَ: محفوظ ہونا۔ اِسْتَعْصَمَ: بچانے والی چیز تلاش کرنا، چاہنا۔ ــ بہ: سے وابستہ ہونا، کے ساتھ ہونا۔ ــ من الشرّ والمکروہ: برائی اور ناپسندیدہ چیز سے پناہ لینا اور باز رہنا۔ العَاصِمَة جمع عَوَاصِم: مدینہ منورہ کا لقب، دارالسلطنت۔ العِصَام جمع أَعْصِمَة و عُصُم: عہد (مجازاً آتا ہے)۔ ــ من القِرْبَة: مشک باندھنے کی رسی۔ ــ من الوعاء: برتن کا دستہ، ماوراءك یا عصام: مثل بمعنی تیرے پیچھے کیا ہے اے عِصام جہاں سے آرہے ہو وہاں کے کیا حالات ہیں۔ عصام لقمان کا دربان تھا۔ اس نے نابغہ نامی شاعر کو جو لقمان کی عیادت کے لئے آیا تھا لقمان کے پاس جانے سے روک دیا تھا۔ نابغہ نے اپنے قصیدہ کے ایک شعر میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فانی لا الومك فی دخولی ولکن ماوراءَكَ یا عصام: میں لقمان کے پاس جانے سے منع کرنے کے بارے میں تجھے ملامت نہیں کرتا مگر اے عصام یہ تو بتا کہ تیرے پیچھے کا کیا حال ہے۔ یعنی لقمان کا کیا حال ہے۔ العِصَامِیّ: عصام کی طرف منسوب جو نعمان کا دربان تھا۔ ذاتی شرافت والا۔ اسی سے مثل ہے۔ کُنْ عِصامیًا لا عِظامیًا: عصام کی طرح ذاتی شرافت پیدا کرو، آباؤ اجداد پر فخر نہ کرو جو کہ مر کر ہڈیاں ہو چکے ہیں۔ العِصْمة: بچنا، بچاؤ، گناہوں سے بچنے کا ملکہ، اسی سے صاحبةُ العِصْمَة: کا لقب ہے جس سے عصر حاضر کے لوگ عظیم عورتوں کو ملقب کرتے ہیں۔ ـــ جمع عِصَم و اَعْصَم و عِصَمَة و جج أَعصام: گلوبند، پٹہ۔ العَصَمة: پٹہ۔ اَعْصام کا واحد جو کتوں کے پٹوں کو کہا جاتا ہے۔ المِعْصَم جمع مَعَاصِم (ع ا): کلائی، کہتے ہیں: احاط بہ إحاطةً السوار بالمعصم: اس نے اسے اس طرح حلقہ میں لے لیا جیسے کنگن کلائی کو لیتا ہے۔ المُعتَصَم: پناہ لینے کی جگہ۔ پناہ گاہ۔ (ا ع): جنگ میں دفاع یا حملہ کیلئے ایک جگہ جمع ہونے کا مرکز۔

۳۔ عَصِمَ ـَ عَصَمًا الظَبْیُ: ہرن کا سفید ٹانگوں والا ہونا۔ اَعْصَم مونث عَصْماء جمع عُصْم: وہ جانور جس کے اگلے دو پاؤں یا ایک سفید ہو باقی سرخ یا سیاہ۔ العَصَمَة: اَعْصَم کا اسم۔

۴۔ العُصْم و العُصُم: ہر چیز کا باقی حصہ خضاب وغیرہ کا اثر۔ العِصَام جمع أَعْصِمَة و عُصُم و عِصَام: سرمہ، دم کا باریک حصہ۔ العَصُوم و العَیْصُوم: (مذکر و مونث کیلئے) بہت کھانے والا۔ العَصِیم: پسینہ، ہر چیز کا باقی حصہ۔ خضاب وغیرہ کا اثر۔

Ⓒ عَصَمَ ـِ عَصْمًا ہ/ ہ کو روک لینا، منع کرنا، کی حفاظت کرنا، کو بچانا۔ ــ ہ: (دواء کا)، کسی کو بچا دینا، سے مستثنیٰ کرنا، بے خوف کرنا۔ اِعْتَصَم ب: سے وابستہ ہونا، چمٹنا، سے لگا رہنا، کی پناہ لینا، میں پناہ لینا، کو برقرار رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو محفوظ رکھنا، کے پاس جایا کرنا، سے رجوع کرنا۔ ــ بالصمت: خاموش رہنا۔ ــ برباطة الجأش: سکون برقرار رکھنا۔ اِسْتَعْصَم بمعنی اِعْتَصَمَ نیز (ترغیب) کا مقابلہ کرنا، کی مدافعت کرنا، کو طاقت سے روکنا۔ عُصْمَة: ہار، چمپاکلی۔ عِصْمة: روکنا، رکاوٹ، باز رکھنا، احتیاط، دور کرنا، حفاظت، دفاع، پاکدامنی، پاکیزگی، شرافت، حیا، پاکبازی، پارسائی، باعصمت ہونا، معصومیت، بیگناہی، بے غلط ہونا۔ عِصْمَة النکاح: ازدواجی بندھن۔ فی عِصْمَةِ فلان: کسی کی حفاظت یا نگرانی میں، سے بیاہی ہوئی۔ جعلت عِصْمَتَها فی یدها: اس (خاتون نے) اپنے آپ کو آزاد کر لیا وہ آزاد ہو گئی اور آزاد رہی۔ فَكَّ عِصْمَتَها من زوجها: جج نے شوہر کا اپنی بیوی پر ازدواجی اختیار منسوخ کر دیا۔ عِصَام جمع أَعْصِمَة و عُصُم: چمڑے کی پٹی، فیتہ، تسمہ، عِصَامی: شریف، اونچے خاندان کا، عالی نسب، ممتاز، نمایاں، اپنی خوبیوں کی بنا پر سرکردہ، اپنی کوششوں سے کامیاب ہونے والا جمع عصامیُون۔ عِصَامیة: اپنی کوششوں سے حاصل کی ہوئی کامیابی Self-made success۔ أعصم مونث عَصْماء جمع عُصْم: (جانور) جس کا ایک پاؤں سفید ہو، بہت عمدہ، اعلیٰ، قیمتی، أَنْدَرُ مِن الغُراب الاعصم: سفید پاؤں والے کوے سے زیادہ نادر، یعنی نادر شے۔ مِعْصَم جمع مَعَاصِم: کلائی، مَعْصَم جمع مَعَاصِم: حفاظتی یا محفوظ جزیرہ وہ جزیرہ جہاں آمد و رفت رہتی ہو۔ عاصم: حفاظت کرنے والا، بچانے والا۔ محافظ، عَاصِمة جمع عواصم: دارالحکومت عروس البلاد، کسی ملک کا بڑا شہر۔ معصوم: مقدس جس کی حرمت قائم رکھنی پڑے، قتل پر خاندانوں کی لڑائیوں کے قانون سے محفوظ۔ بے گناہ، جس سے غلطی کا امکان نہ ہو۔ معصوم عن الخطاء: معصوم، معصوم من الزَلَل: جس سے غلطی ممکن نہ ہو۔

عصا: ۱۔ عصا ـُ عَصْوًا الرجُلَ: کو لاٹھی سے مارنا۔ ــ القومَ: لوگوں کو نیکی یا بدی پر جمع کرنا۔ عَصِیَ ـَ عَصًا: لاٹھی ہاتھ میں لینا۔ ــ بالسیف: لاٹھی کی طرح تلوار سے مارنا۔ عَصَّی تَعْصِیَةً فلاناً العصا: کو لاٹھی دینا۔ عَاصَی مُعَاصَاۃً ہُ فَعصَاہُ: کیساتھ لاٹھی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سے مار پیٹ کرنا اور غالب ہونا۔ أَعْصَى إِعْصَاءً الكرمُ: انگور کی بیل میں شاخوں کا نکلنا اور پھل نہ آنا۔ اِعْتَصَى الشَّيءَ: کو لاٹھی بنالینا۔ ــ عليه: پر ٹیک لگانا۔ ــ بالسيف: لاٹھی کی طرح تلوار مارنا۔ العصا (مص): اجتماع، جماعت، کہتے ہیں۔ شَقَّ العصا: اس نے جماعت کی مخالفت کی۔ جمع عُصِيّ و عِصِيّ و أَعْصٍ و أَعْصَاء (مونث) لاٹھی، سہارے کی چیز، تثنیہ عَصَوَان: (کہتے ہیں۔ اِنْشَقَّت عصا القوم: لوگوں کا آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ قَرَعَ له العَصَا: اس نے اسے متنبہ کیا۔ قَشَرَ لَهُ العَصَا: اس نے اس پر اپنے دل کی بات ظاہر کی۔ قرعه بعصا الملامة: اس نے اسے حد سے زیادہ ملامت کی۔ اَلْقَى المسافرُ العصا: مسافر اپنی جگہ پہنچ گیا۔ اَلْقَى عصا الترحال: اس نے اقامت اختیار کی۔ الناسُ عبيدُ العصا: لوگ اس سے ڈرتے ہیں جو انہیں ایذا دے۔ فلانٌ لَيِّنُ العصا: فلاں نرم مزاج ہے۔ اس کے مقابل صُلْبُ العصا ہے۔ جس کا معنی وہ سخت مزاج ہے)۔ پنڈلی کی ہڈی۔ العُصَيَّة: عصا کی تصغیر چھوٹا ڈنڈا۔

۲۔ عَصَا ـُ عَصْوًا الجرحَ: زخم کو باندھنا۔

۳۔ العصا: زبان۔

○ عَصًا (مونث) جمع عُصِيّ و عِصِيّ و أَعْصٍ: ڈنڈا، سونٹا، لاٹھی، عصا، چھڑی (جادو کی بڑے قوال کی)، عصائے اقتدار، بید، چھڑی (چلتے ہوئے ہاتھ میں رکھنے والی) عصائے شاہی: عصائے حکومت۔ (فیلڈ مارشل کی) چھڑی۔ عصا المارشالية: فیلڈ مارشل کی چھڑی۔ شَقَّ العصا: اختلاف کرنا۔ جماعت سے الگ ہو جانا، سے قطع تعلق کر لینا، کی رکنیت چھوڑ دینا۔ شق عصا الطاعة: بغاوت کرنا، فرماں برداری سے دستبردار ہو جانا۔ شق عصا القوم: لوگوں میں نا اتفاقی کا بیج بونا۔ اِنْشَقَّت عصاهم: وہ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ عَصَاة: لاٹھی، چھڑی، ڈنڈا، بید عَصَايَة: لاٹھی، ڈنڈا، سونٹا، بید چھڑی۔ عُصَيَّة: چھوٹی چھڑی، چھوٹا ڈنڈا۔ جرثومہ (ننھے جراثیم)۔

عصی: ا۔ عَصَى ـِ عَصْيًا و مَعْصِيَةً سَيِّدَهُ: آقا کی مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا صفت عاصٍ جمع عُصَاة و عاصون ــ العِرقُ: خون بند نہ ہونا۔ عَاصَى مُعَاصَاةً ہٗ: کی نافرمانی کرنا۔ تَعَصَّى تَعَصِّيًا عليه: کی نافرمانی کرنا۔ ــ الأمرُ: دشوار ہونا۔ اِعْتَصَى اِعْتِصَاءً ت النواةُ: گٹھلی کا سخت ہو جانا۔ اِسْتَعْصَى سَيِّدَهُ: آقا کی نافرمانی کرنا۔ ــ الشيءُ عليه: پر دشوار ہونا، سخت ہونا۔ العِصْيَان: نافرمانی۔ عدول حکمی، بغاوت، العَصِيّ جمع عَصِيُّون و أَعْصِيَاء و العُصَّاء جمع عَصَّاؤون: نافرمان، مرتد، گنہگار، سرکش۔ المَعْصِيَة جمع المعاصي: گناہ، غلطی، سہو، لغزش، بغاوت۔

۲۔ عَصَى ـِ عَصْيًا و مَعْصِيَةً الطائرُ: اڑنا۔

○ عَصَى ـِ عَصْيًا و مَعْصِيَةً و عِصْيَانًا ہٗ: کی نافرمانی کرنا، کی بات میں، حکم عدولی کرنا، مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، کو چیلنج دینا، کی کسی بات میں اطاعت سے انکار کرنا یا چھوڑ دینا۔ ــ ہٗ: کے خلاف بغاوت کرنا، عاصا بمعنی عَصَى۔ تَعَصَّى: (معاملہ، مسئلہ بات) مشکل ہونا یا ہو جانا، پیچیدہ یا الجھا ہوا ہونا یا ہو جانا۔ تعاصَى علي: کے لئے مشکل ہونا، سخت ہونا، ناقابل رسائی ہونا، کی پہنچ سے باہر ہونا، کیلئے ناممکن ہونا۔ – عن: کو کرنے سے انکار کرنا۔ اِعْتَصَى بمعنی تعصَّى – إستعصى علي: کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جمے رہنا، کو چیلنج کرنا، کے خلاف بغاوت کرنا۔ استعصى: نافرمان ہونا، سرکش ہونا، باغی ہونا، استعصى علي: کیلئے مشکل ہونا، دشوار ہونا، ــ عن: سے بچ نکلنا، کو طرح دے جانا، سے گریز کرنا، کو چیلنج کرنا، کی دسترس سے باہر ہو جانا، کی طاقت سے باہر ہونا۔ ــ علي: کیلئے کام کرنے سے انکار کرنا۔ إستعصى: (بیماری کا) ناقابل علاج ہونا، نقصان دہ ہونا، جان لیوا ہونا (کسی آلہ یا مشین کا) فیل ہو جانا (نہ چلنا) ناکارہ ہونا، ٹوٹ جانا)۔ عَصِي جمع عَصِيُّون و أَعْصِيَاء: باغی، خودسر، سرکش، بے لگام، منہ زور، نافرمان۔ عَصِيُّ النطق: بولنے سے عاجز۔ عِصْيَان: نافرمانی، عدول حکمی، سرکشی، بغاوت، حکومت کے خلاف باغیانہ تحریک، بغاوت انگیز تقریر یا اقدام۔ مَعْصِيَة: نافرمانی، حکم عدولی، سرکشی، بغاوت، حکومت کے خلاف باغیانہ تحریک بغاوت انگیز تقریر یا اقدام جمع معاصي: گناہ۔ استعصاء: سرکشی، نافرمانی، ضد، ہٹ، ناقابل گزر ہونا، بے پایاں ہونا، اتھاہ ہونا، مشکل، سخت نقصان دہ ہونا، جان لیوا ہونا، ہلاکت آفرینی، تختی، زہرناکی، مشین کا کام نہ کرنا، ناکارہ ہونا، ٹوٹ جانا۔ (mechanical break down)، (آتشی اسلحہ کا) جام ہو جانا، نہ چلنا، عاصٍ جمع عُصَاة: نافرمان، منہ زور، سرکش، بغاوت میں حصہ لینے والا، باغی، باغیانہ، ہنگامہ خیز، بغاوت انگیز، تخریبی، گنہگار

مُتَعَصِّص: مشکل، پیچیدہ، الجھا ہوا، نازک، ناقابل علاج۔ مُسْتَعْصٍ: مشکل، پیچیدہ، الجھا ہوا، نازک، ناقابل علاج۔

عض: ا۔ عَضَّ ــ عَضًّا و عَضِيضًا ہٗ: کو دانت سے پکڑنا، کاٹنا عَضَّ به اور عض عليه بھی آتا ہے۔ ــ ہٗ الزمانُ: پر زمانہ کا سخت ہونا۔ عَضَّضَ: بہت کاٹنا۔ عَاضَّ مُعَاضَّةً و عِضَاضًا الدوابُّ: جانوروں کا ایک دوسرے کو کاٹنا۔ أَعَضَّ ہٗ الشيءَ: سے کو کٹوانا۔ تَعَاضَّا: ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹنا۔ العُضّ: جو، گیہوں، اسپست۔ سوکھی گھاس۔ چھوٹا کانٹے دار درخت۔ العِضّ جمع أَعْضَاض و عُضُوض: بدخلق، لڑاکا، خبیث ــ جمع أَعْضَاض: چھوٹا کانٹے دار درخت۔ العَضَاض: جو چیز دانتوں سے کاٹی اور کھائی جائے۔ (کہتے ہیں لم يذق عَضَاضًا: اس نے کوئی چیز نہیں چکھی۔) موٹا درخت۔ العِضَاض: عاضَّ کا مصدر، کہتے ہیں۔ هو عِضَاضُ عيشٍ: وہ سخت زندگی پر صابر ہے۔ العَضَّاض و العَضُوض: بہت کاٹنے والا۔ العَضِيض (مص) سخت کاٹ۔

۲۔ عَضَّ ـَ عَضًّا و عَضِيضًا الشيءَ: کے ساتھ لگ رہنا اور اسے پکڑے رکھنا۔ العِضّ جمع أَعْضَاض و عُضُوض: سخت طاقت ور، مصیبت، ہمسر، بخیل، مال کا منتظم، کہتے ہیں۔ انه عِضُّ مالٍ: وہ مال کا سخت منتظم ہے۔ العَضِيض: ساتھی۔

۳۔ أَعَضَّت البئرُ: کنویں کا بہت پانی والا ہونا۔ بئرٌ عَضُوض: بہت پانی والا کنواں۔

۴۔ العُضَاض و العُضَاض: ناک کا اوپر والا سخت حصہ۔

○ عَضَّ ــ عَضًّا و عَضِيضًا ہٗ / ہٗ / علي / ب: کو دانت سے پکڑنا، کو دانت سے کاٹنا۔ – ہ: میں کاٹنا۔ ــ ب: سے چمٹنا، سے وفاداری کرنا، کو کرتے رہنا، پر قائم رہنا۔ ہٗ: (بھوک کا) کو سخت اذیت دینا یا پہنچانا۔ عَضَّهُ الدهرُ یا عَضَّهُ الدهرُ بِنَابِهِ: زمانہ یا قسمت نے اس سے برا سلوک کیا۔ اس پر آزمائشوں اور مصائب کا ڈھیر لگا دیا، اس نے شکست پر شکست کھائی۔ عَضَّضَ ہٗ / ہ: کو سختی سے یا اکثر دانتوں سے کاٹنا۔ عِضّ: چھوٹی کانٹے دار جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں۔ عَضَّة: کاٹ (دانت کی) عَضَّاض: دانتوں سے کاٹنے کا عادی۔ کاٹ دار۔ عَضُوض: کاٹنے کا عادی، کاٹ دار۔

عضب: ا۔ عَضَبَ ـِ عَضْبًا ہٗ: کو قطع کرنا، کاٹنا۔ ــ ہٗ المرضُ: بیماری کا کسی کو ہلنے جلنے سے روکنا۔ ــ ہٗ عن الأمر: کو کسی بات پر یا کام سے روک دینا۔ ــ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عنہ: سے باز رہنا، کی تلافی کرنا۔ ـــــ و أُعْضِبَ النَّاقَةَ ونحوها: اونٹنی وغیرہ کا کان پھاڑ دینا۔ عَضِبَ ـَ عَضَبًا الکبشُ ونحوُہُ: مینڈھے کا پھٹے کان والا ہونا یا ٹوٹے ہوئے سینگ والا ہونا۔ عَضُبَ ـُ عُضُوبًا و غُضُوبَۃً: چرب زبان ہونا۔ عَاضَبَ مُعَاضَبَۃً ہُ: کو منع کرنا، کو سے منقطع کرنا، انْعَضَبَ القرنُ: سینگ کا ٹوٹ جانا۔ الْعَضْب (مص): تیز تلوار کہتے ہیں۔ سیفٌ عَضْبٌ: تیز یا قاطع تلوار۔ الأعْضَب ء عَضْبَاء جمع عُضْب: پھٹے کان والا، ٹوٹے ہوئے سینگ والا، جس کا بھائی نہ ہو، بے یار و مددگار۔ المَعْضُوب: کمزور، روگی، دائم المرض، معذور، کہتے ہیں: انہ لمعْضوبُ اللسان: وہ بولنے میں عاجز ہے۔

۲۔ عَضَبَ ـِ عَضْبًا بالرمح: کو نیزہ مارنا ـ ہُ بالعصا: کو لاٹھی مارنا۔

۳۔ عَضَبَ ـِ عَضْبَاہُ بلسانہ: کو گالی دینا۔ العَضْب: تیز زبان والا۔ العَضَّاب: بہت گالی دینے والا۔ بہت کاٹنے والا۔

۴۔ عَضْبر عضبرۃُ الکلب: کتے کا شیر کی مانند ہونا۔ العِضْبَارۃ: چکی کا پاٹ، دھوبی کا پتھر۔

⊙ عَضْب: تیز، طنز آمیز، طنزیہ، ترش زبان، تیز زبان والا۔

عضد ۱۔ عَضَدَ ـُ عَضْدًا ہُ: کے بازو پر مارنا ـ ہُ: کی مدد کرنا۔ عَضَدَ ـــ عَضَدًا و عَضِدَ عَضَدًا: کے بازو میں درد ہونا۔ صفت عَضِد ء عَضِدَۃ۔ عَاضَدَ مُعَاضَدَۃً ہُ: کی مدد کرنا، کہتے ہیں۔ عَاضِدْنِي علی فلان: فلاں کے خلاف میری مدد کرو۔ تَعَضَّدَہُ: کو بغل میں لینا۔ تَعَاضَدُوا: ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا۔ اِعْتَضَدَہُ: کو بغل میں لینا۔ ـــ بہ: سے مدد مانگنا، طاقتور ہونا، العَضْد (مص): جمع أَعْضَاد: مددگار۔ العُضْد و العَضِد جمع أعْضَاد و أعْضُد (ع ا): بازو (کہنی سے کندھے تک)۔ العَضُد جمع أعْضَاد و أَعْضُد (ع ا): بازو کہتے ہیں۔ فتّ فی عَضُدِہ: اپنے مددگاروں کو کمزور کیا اور انہیں اپنے سے جدا کر لیا۔ فلانٌ عَضُدِی: فلاں شخص میرا مددگار ہے۔ عَضُدُ کلّ شیٍ و اَعْضَادُ کلّ شیٍ: وہ چیز جس سے عمارت کے آس پاس کو مضبوط کیا جائے جیسے حوض کے کنارے پتھر کھڑے کر دیئے جائیں۔ العَضَد: قوۃ، مضبوط بازو والا۔ اونٹ کے بازو کا ایک مرض۔ عَضُدُ کل شیٍ: عمارت وغیرہ کے اردگرد مضبوط کرنے والے پتھر جیسے حوض کے کنارے لگے ہوئے پتھر۔ العِضَاد: تعویذ وغیرہ جو بازو پر باندھتے ہیں۔ اونٹوں کے بازو کا نشان۔ بازو بند، العِضَادَۃ: کہتے ہیں: فلانٌ عِضَادۃُ فلان: فلاں شخص فلاں کا مددگار ہے۔ اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا۔ عِضَادتا الباب: چوکھٹ کے دونوں بازو۔ العِضَادِی و العَضَادِی و العُضَادِی: بڑے بازو والا۔ الأعْضَد: دبلے بازو والا۔ جس کا ایک بازو چھوٹا ہو۔ المِعْضَاد: بازو بند۔ المِعْضَدَۃ: تھیلی، بٹوہ۔

۲۔ عَضَدَ ـِ عَضْدًا الشجرۃَ: درخت کو درانتی سے کاٹنا۔ استعضد الشجرۃَ: درخت کو درانتی سے کاٹنا۔ العَضَد (مص): کٹا ہوا درخت۔ العِضَاد: درانتی۔ العَضِید جمع عِضْدان: درخت سے کٹا ہوا۔ المِعْضَد جمع مَعَاضِد: درانتی۔ المِعْضَاد: درانتی، ہڈی کاٹنے کی بڑی چھری۔

۳۔ عَضَدَ ـِ عَضْدًا الشجرۃَ: اونٹوں کے لئے درخت سے پتے جھاڑنا۔ اِسْتَعْضَدَ الثمرۃَ: پھل چننا۔ العَضَد: چارپایوں کے لئے درخت سے جھاڑے ہوئے پتے۔

۴۔ عَضَّد و اَعْضَدَ السهمُ: تیر کا دائیں بائیں چلا جانا۔

۵۔ العَضُد جمع اَعْضَاد گوشہ، پہلو۔ عَضُدُ الطریق: راستہ کا پہلو۔ العَضَاد: پستہ قد، مرد یا عورت۔ العِضَادَۃ من الطریق: راستہ کا پہلو۔ العَضِید جمع عِضْدَان: کھجور کے درختوں کی قطار۔ العَوَاضِد: دریا کے دونوں جانب اگے ہوئے کھجور کے درخت۔

⊙ عَضَدَ ـُ عَضْدًا ہ/ ھ کی مدد کرنا، تائید کرنا، پشت پناہی کرنا، ـــ ہ: کے لئے جدوجہد کرنا۔ ـــ ھ کی وکالت کرنا، تائید کرنا، حمایت کرنا، کے حق میں بولنا۔ عَضَّد و عَاضَد بمعنی عَضَد۔ تَعَاضَدَ: ایک دوسرے کی مدد کرنا، تائید کرنا، تعاون کرنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کام کرنا۔ عَضُد: مدد، تائید، پشت پناہی، مددگار، معاون، تائید کرنے والا، پشت پناہی کرنے والا۔ عَضُد: (مذکر و مونث) جمع اَعْضَادِ: بالائی بازو، قوت، طاقت۔ شَدَّ عَضُدَہ: کی مدد کرنا، کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ھو عَضُدُہ المَتِین: وہ اس کیلئے ایک ناگزیر مدد کا درجہ رکھتا ہے۔ تعضید و مُعاضَدَۃ: مدد، تائید، پشت پناہی۔ تَعَاضُد: باہمی مدد، تعاون۔ تَعَاضُدِی: باہمی معاون، مساعد۔ مُعَضِّد: مددگار، موید، پشت پناہ۔

عضر ۱۔ العَضْرَس و العُضَارِس جمع عَضَارِس: سردی، برف، اولے۔ ٹھنڈا میٹھا پانی۔ (ح): گورخر۔

۲۔ العُضْرُط جمع عَضَارِط و عَضَارِطَۃ: کھانے پر مزدوری کرنے والا۔ والعِضْرِط: کمینہ۔ قومٌ عَضَارِیط: فقیر لوگ۔

عضل ۱۔ عَضَلَ ـُ عَضْلاً علیہ: پر تنگی کرنا، کو منع کرنا۔ ـــ بہ الامرُ: پر کام سخت ہونا۔ ـــ ـِ و عَضِلَ ـَ عَضْلاً و عِضْلاً و عِضْلانًا المرأۃَ عن الزواج: عورت کو نکاح سے روکنا، منع کرنا۔ عَضَّلَ علیہ: پر تنگی کرنا اس کے حصول مقصد میں حائل ہونا۔ ـ المرأۃَ عن الزواج: عورت کو شادی سے روکنا۔ المکانُ: جگہ کا تنگ ہونا، کہتے ہیں: عَضَّلَتِ الارضُ باهلها: کثرت کی وجہ سے زمین کا اہل زمین کیلئے بہت بھیڑ والا ہونا یا بہت ٹھسا ہوا ہونا۔ ـ ت المرأۃُ او الدجاجۃُ وغیرُهما من الحیوان بولدها: عورت، مرغی یا دیگر حیوانات پر بچہ جننا مشکل ہونا دشوار ہونا صفت مُعَضِّل۔ أعْضَلَ الامرُ: کام کا سخت ہونا، مشکل ہونا۔ ـ ت المرأۃُ و نحوها من الحیوان بولدها: عورت، اور دوسرے جانوروں کیلئے بچہ جننا دشوار ہونا صفت مُعْضِل و مُعْضِلَۃ جمع مَعَاضِیل۔ ـ بہ الامرُ: پر حیلے تنگ ہونا۔ ـــ الامرُ فلانًا: پر غالب آنا، کو عاجز کرنا۔ ـــ الداءُ الاطباءَ: بیماری کا طبیبوں کو عاجز کر دینا۔ تَعَضَّلَ الداءُ الاطباءَ: بیماری کا طبیبوں کو عاجز کر دینا۔ العِضْل: بہت بڑا، چالاک شخص۔ العُضْلَۃ جمع عُضَل و عُضَل: مصیبت، العُضَال: سخت۔ داءٌ عُضَال: تھکا دینے اور عاجز کر دینے والا مرض، لاعلاج مرض داءٌ مُعْضِل: وہ مرض جس کی کوئی دوائی کارگر نہ ہو۔ لاعلاج مرض المُعْضِلَۃ جمع مُعْضِلات: مُعْضِل کا مونث۔ مشکل، پیچیدہ مسئلہ، معاملہ جس سے نکلنے کے راستے تنگ ہوں۔ المُعْضِلات: سختیاں۔ المُعَضِّلَۃ: مشکل پیچیدہ معاملہ۔ جس سے نکلنے کے راستے تنگ ہوں۔

۲۔ عَضَلَ ـُ عَضْلاً الرجُلَ: آدمی کے گوشت دار پٹھے پر مارنا۔ عَضِلَ ـَ عَضَلاً: بہت سخت گوشت والا ہونا۔ پنڈلی کا عضلہ موٹا ہونا، صفت عَضِل و عَضُل العَضَلہ جمع عَضَل و عَضَلات و العَضِیلَۃ جمع عَضَائِل (ع ا): پٹھا جس کے ساتھ گوشت ہو۔

۳۔ عَضَلَ ـِ و عَضِلَ ـَ عَضْلاً و عِضْلاً و عِضْلانًا الرجُلَ: کو رنڈوا کرنا۔

۴۔ العِضْل: سخت بدصورت۔ العُضَل جمع عِضْلان (ح): بڑا چوہا۔ العَضَلَۃ (ن): درخت کنیر کی مانند ایک درخت۔ المُعْضِل: بہت بدصورت۔

⊙ عَضِلَ ـَ عَضَلا: مضبوط اور گٹھا ہوا ہونا۔ عَضَل ـِ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عَضَلا (ھا): عورت کو شادی سے روکنا۔ اَعْضَلَ ہ/ ب: کیلئے مشکل ہونا یا ہو جانا۔ معما سا ہونا یا ہو جانا، پراسرار ہونا یا ہو جانا۔ مشتبہ و مشکوک ہونا یا ہو جانا حیران کن ہونا یا ہو جانا، کو الجھن میں ڈالنے والا ہونا یا ہو جانا۔ اعضل الداءُ الاطباءَ یا تَعَضَّلَ الداءُ الاطباءَ: بیماری تمام طبی مہارت کو خاطر میں نہ لائی، بیماری نے اطباء کو سر درد دیا، بیماری نے اطباء کے لئے ایک معمائی مسئلہ کھڑا کر دیا۔ عَضِل: مضبوط، گٹھا ہوا، کسرتی، مضبوط پٹھوں والا۔ عَضَلَة جمع عَضَلات وعَضَل: پٹھا۔ عَضَلِي: پٹھوں کا مضبوط، گٹھا ہوا، عُضَال: سخت، مُزْمِن (مرض)، لاعلاج (بیماری)، مُعْضِل: مشکل، مشتبہ، مشکوک، حیران کن، معما سا، پر اسرار، مُعْضِلة جمع مُعْضِلات و مَعَاضِل: مشکل، مسئلہ، دہری مشکل، حیرانی، الجھن، معما، عقدہ، چیستان۔

عضم: العَضْم جمع عُضْم و أَعْظِمَة: گیہوں کو صاف کرنے کا شاخ دار آلہ، وہ چیز جس سے گیہوں پھٹکی جاتی ہے۔ ۔جمع عِصَام: کمان کا قبضہ۔

عضہ: ا۔ عَضَهَ ـَ عَضْهًا و عَضَهًا وعِضْهَةً وعَضِيهَةً: جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، جادو کرنا۔ عَضَهَا الرجُلَ: کو صریح گالی دینا، پر بہتان لگانا۔ عَضِهَ ـَ عَضَهًا و أَعْضَهَ: جھوٹ بولنا، بہتان لگانا۔ العَاضِه (فا): ساحر، جادوگر۔ العَاضِهَة: عَاضِه کا مونث۔ جھوٹ، بہتان۔ العِضَه جمع عِضُون: جھوٹ، جادو۔ العَضِيهَة (مص): جمع عَضَائِه: بہتان، بدگوئی۔

۲۔ عَضَهَ ـَ عَضْهًا البعيرُ: اونٹ کا ببول کا درخت کھانا۔ العِضَاه: (واحد عِضَاهَة و عِضَة) ہر بڑا کانٹے دار درخت، کہتے ہیں۔ فلان ينتجب غيرَ عِضَاهِهِ: فلاں غیر کے شعر کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ العِضَاهِيّ والعِضَهِيّ والعَضَوِي من الابل: وہ اونٹ جو کانٹے دار درخت کھائے، مکان عَضِه: کانٹے دار درختوں والی جگہ ارضٌ عَضِيهَةٌ: وہ زمین جس میں کانٹے دار درختوں کی بہتات ہو۔

۳۔ حَيَّة عاضِهَة و عاضِهٌ جمع عَوَاضِه: وہ سانپ جس کا ڈسا فوراً مرجائے۔

عِضَاه: خاردار جھاڑیاں۔

عضا: ا۔ عَضَا ـُ عَضْوًا الشيءَ: کو متفرق کرنا۔ و ـ الشاةَ: بکری کو جدا جدا کرنا، کی کھال اتارنا، ادھیڑنا۔ عَضَّى تَعْضِيَةً الشيءَ: کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ ـ الشاةَ: بکری کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ــــ القومَ: لوگوں کو ممبر بنانا۔ العُضْو والعِضو ج أعْضَاء: جسم کا حصہ، کسی جماعت یا جمعیت کا رکن۔ العِضَة جمع عِضُون: فرقہ، ٹکڑا، جزو، حصہ۔

۲۔ العِضَة: جمع عضون: جھوٹ رجلٌ عاضٍ: خوشحال شخص۔

ⓒ عُضْو جمع اعْضاء: ممبر، بازو یا ٹانگ، جسم کا کوئی حصہ (کسی تنظیم کا) رکن۔ عضو اصلی: باقاعدہ ممبر۔ عضو احتیاطی: قائم مقام ممبر، یکے بعد دیگر ممبر۔ عضو التانيث: پھول کا مادہ حصہ عضو التذکیر: پھول کا نر حصہ (Stamen)۔ عضو فَخْرِي: اعزازی ممبر، اعضاء التناسل: اعضاء تناسل Genitals جنسی اعضاء۔ الاعضاء الدقيقة: اعضاء تناسل۔ جنسی اعضاء۔ الدُوَلُ الاعضاء: رکن ممالک، (the member states)۔ علم وظائف الاعضاء: عضویات، علم اعضاء Physiology عُضْوات: خواتین ممبر۔ عُضْوِي: عضوی، نامیاتی۔ لاعُضْوِي یا غیر عُضْوِي: بے جان، غیر نامی۔ (inorganic)۔ كُتْلَة عُضْوِيَة: جسم نامی، نامیاتی جسم۔ عُضْوِيَة: جمع عُضْوِيَّات: رکنیت، تنظیم، جماعت، نامیاتی جسم۔

عط: ا۔ عَطَّ ـُ عَطًّا و عَطَّطَ و اِعْتَطَّ الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔ عَطِيط: پھٹا ہوا کپڑا۔ تَعَطَّطَ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ اِنْعَطَّ العودُ: لکڑی کا مڑنا۔ ــــ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔

۲۔ عَطَّ ـُ عَطًّا و عَطَّطَ واعْتَطَّ الرجُلَ الی الارض: آدمی کو پچھاڑنا، اس پر غالب ہونا۔ العَطَاط: عظیم بہادر۔ (ج): شیر۔

۳۔ الأعَطّ: لمبا، دراز، طویل۔

۴۔ عَطْعَطَ عَطْعَطَةً القومُ: لڑائی وغیرہ، میں چیخ و پکار کرنا۔ ـ الکلامَ: بات کو خلط ملط کر دینا۔

عطب: ا۔ عَطَبَ ـُ عَطْبًا و عُطُوبًا القُطْنُ: روئی کا نرم ہونا۔ اِعْتَطَبَ النارَ: آگ کو چیتھڑے میں لینا۔ العُطْب والعُطُب: روئی۔ العُطْبَة: روئی کا ایک ٹکڑا، چیتھڑا جس میں آگ لی جائے۔ کہتے ہیں: اجد ريح عُطْبَةٍ: میں جلتی ہوئی روئی یا چیتھڑے کی بو محسوس کرتا ہوں۔

۲۔ عَطِبَ ـَ عَطَبًا و اعْتَطَبَ: ہلاک ہونا۔ ـ الفرسُ ونحوُهُ: گھوڑے وغیرہ کا تھکنا۔ أعْطَبَ ہ کو ہلاک کرنا۔ المَعْطَب جمع مَعَاطِب: جائے ہلاکت۔

۳۔ عَطِبَ ـَ عَطَبًا و اعْتَطَبَ عليه: پر سخت غضبناک ہونا۔

۴۔ عَطَّبَ [illegible] خوشبو [illegible] کرنا۔

۵۔ عَطَّبَ الكرمُ: خوشہ انگور کی گرہیں ظاہر ہونا۔

۶۔ المُعْطِب: فقیر۔

۷۔ العُطْبُل والعُطْبُول: دراز گردن ہرنی۔ ـــ والعُطْبُولة والعَيْطَبُول جمع عَطَابِل و العَطَابِيل: جوان خوبصورت دراز گردن عورت۔

ⓒ عَطِبَ ـَ عَطَبًا: فنا ہونا، مر جانا، تلف ہونا، تباہ ہونا، برباد ہونا، عَطَّبَ ہ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا، کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، کمزور کرنا، کو بگاڑنا، خراب کرنا، کا ستیاناس کرنا، کو بے اثر کرنا، مشروب کو تیار کرنا، مخلوط کرنا۔ أعْطَبَ ہ/ ہ: کو تباہ و برباد کرنا، کو نقصان پہنچانا، زخمی کرنا، کو خراب کرنا، کا ستیاناس کرنا، کو بگاڑنا، تَعَطَّبَ: کو نقصان پہنچنا۔ اعْتَطَبَ بمعنی عَطِبَ۔ عَطَب: تباہی، ستیاناس، شکستہ یا ڈوبا ہوا جہاز، تباہی، بربادی، نقصان، تَعْطِيب: نقصان پہنچنا، تباہ کرنا، تباہی، بربادی، تَعَطُّب: نقصان اٹھانا، تباہی، نقصان۔

عطر: ا۔ عَطِرَ ـَ عَطَرًا: خوشبودار ہونا صفت عَطِر۔ عَطَّرَہُ: کو خوشبودار کرنا۔ تَعَطَّرَ و اِسْتَعْطَرَ: خوشبودار ہونا۔ العِطْر جمع عُطُور: خوشبو، ایک قسم کی خوشبودار نبات، ضرب المثل: لاعِطْرَ بعد عروس: عروس کے بعد کوئی عطر نہیں۔ عروس اسماء بنت عبداللہ عذریہ کے پہلے شوہر کا نام تھا، جس کی قبر کو دیکھ کر قبر پر بیٹھ کر رونے لگی دوسرے شوہر نے جس کا نام نوفل تھا، اسے اٹھنے کے لئے کہا تو اس کی عطر کی شیشی گر گئی، تو نوفل نے اسے اٹھانے کو کہا، اس موقعہ پر اس نے یہ فقرہ کہا تھا۔ نوفل بخیل، بدصورت اور گندہ دہن تھا۔ العاطر جمع عُطُر: عطر پسند کرنے والا، زیادہ عطر لگانے والا۔ العَطّار: بہت خوشبو والا، عطر فروش۔ العِطَارَة: عطر فروشی کا پیشہ۔ المِعْطار و المِعْطِير: (مذکر و مونث دونوں کیلئے) بہت خوشبو والا۔

۲۔ تَعَطَّرَتِ البنتُ: لڑکی کا اپنے والدین کے پاس رہنا، شادی نہ کرنا۔

۳۔ عُطَارِد (فلك): ایک سیارہ جو دوسرے سیاروں کے مقابلہ میں سورج سے زیادہ قریب ہے، منصرف و غیر منصرف دونوں طرح آتا ہے۔ فارسی میں اسے دبیر فلک کہتے ہیں۔

ⓒ عَطَّرَ ہ: کو خوشبو لگانا۔ ـ ہ: پر خوشبو لگانا۔ تَعَطَّرَ: اپنے آپ کو خوشبو لگانا۔ عِطْر جمع عُطُور و عُطُورات: خوشبو، سنٹ، عطر، ست، جوہر، روح، عطر الورد: گلاب کا عطر، تیل۔ عَطِر: خوشبودار۔ سُمْعَة

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عَطِرة: بہت عمدہ، درخشاں، تابندہ شہرت۔ عِطری: خوشبودار۔ عِطْرِيَة جمع عطریات: عطر خوشبو، سنٹ، عَطَّار: عطر ساز، عطر فروش، دوا فروش، دواساز، عطار عَاطِر: خوشبودار۔ اثنى عليه عاطر الثناء: اس نے اس کی تعریف کے پل باندھ کر اسے آسمان پر چڑھادیا۔ مُعَطَّر: خوشبولگا ہوا، سنٹ لگائے ہوئے۔

عطس: ۱۔ عَطَسَ ـِ عَطْسًا و عُطَاسًا: چھینکنا، چھینک مارنا، کہتے ہیں عطس فلانٌ و عَطَسَتْ به اللُّجُمُ: وہ مرگیا، عَطَّسَ ہُ: کو چھینکوانا۔ العَاطُوسَ: ناس، نسوار (عام لوگ عطوس کہتے ہیں)۔ العَطْسَة: چھینک، کہتے ہیں۔ هو عَطْسَةُ فلان: وہ ڈیل ڈول اور اخلاق میں اس جیسا ہے۔ المَعْطَس والمَعْطِس جمع مَعَاطِس: ناک، کہتے ہیں۔ اُرْغِمَتِ المَعَاطِسُ: دشمن مغلوب ہوگئے۔

۲۔ عَطَسَ ـِ عَطْسًا و عُطاسًا الصبحُ: پو پھٹنا، دن روشن ہونا۔ العَاطِس: صبح۔

۳۔ العَاطِسَ: سامنے سے آنے والا ہرن۔ العَاطُوس: ایک منحوس چوپایہ۔

عَطَسَ ـُ عَطْسا و عُطاسًا: چھینکنا عَطَّس ہُ: سے چھینک مروانا۔ عَطْسَة: ایک چھینک۔ عُطَاس: چھینکیں، عَاطُوس: نسوار۔ مَعْطِس جمع مَعَاطِس: ناک۔

عطش: عَطِشَ ـَ عَطَشًا: پیاسا ہونا۔ ـ اليه: کا مشتاق ہونا صفت عَطْشان جمع عِطاش و عَطْشَى و عَطَاشَى م عَطْشَى و عَطْشانة جمع عِطاش، عَطَّشَہُ: کو پیاسا کرنا۔ عاطَشْتُهُ فَعَطَشْتُهُ: پیاس لگنے میں میں نے غلبہ کیا اور غالب ہوا صفت مفعولی معطوش۔ أَعْطَشَ ہُ: کو پیاسا کرنا۔ الرجُلُ: پیاسے جانوروں والا ہونا۔ تَعَطَّش: پیاسا بنا۔ العَطِش والعَطْش م عَطِشَة وعَطْشَة: پیاسا۔ العُطاش (طب): ایک بیماری جس میں پیاس نہیں بجھتی۔ المَعْطَش جمع مَعَاطِش: پیاس کا وقت المَعْطَشَة جمع مَعَاطِش: زمین جہاں پانی نہ ہو۔ المِعطاش: بہت پیاسا۔ (مذکر و مونث)۔

عَطِشَ ـَ عَطَشًا: پیاسا ہونا۔ إلى: کا آرزومند ہونا، متمنی ہونا، کی سخت آرزو رکھنا، کے لئے بیتاب ہونا، عَطَّشَ ہ/ھ: کو پیاسا بنانا کو پیاس لگانا۔ أَعْطَشَ بمعنی عَطَّشَ۔ تَعَطَّشَ إلى: کے لئے بیتاب ہونا، کا سخت آرزومند ہونا، کا متمنی ہونا، کا مشتاق ہونا۔ عَطَش: پیاس، عَطِش: پیاسا، خشک، جھلسی ہوئی (زمین)۔ عَطْشان م عَطْشَى جمع عِطاش: پیاسا، ـ إلى: کا لالچی، حریص، خواہشمند، کا سخت آرزومند، کا مشتاق، طالب، عَاطِش: پیاسا، ـ إلى کا لالچی، حریص، خواہشمند، کا سخت آرزو مند، کا مشتاق، طالب مُتَعَطِّش: پیاسا۔ ـ إلى: کا لالچی، حریص، خواہشمند، کا سخت آرزومند، مشتاق، طالب۔ عَطَشْجِيُّ جمع عَطَشْجية: کوئلہ ڈالنے والا، فائرمین۔

عطف: ۱۔ عَطَفَ ـِ عَطْفًا و عُطُوفا اليه: کی طرف مائل ہونا۔ ـ عليه: پر مہربانی کرنا۔ ـ عنه: سے پھرنا، کے پاس سے چلے جانا۔ ـ ہُ عن الامر: کو سے ہٹا دینا۔ ـ كَلمةً على أُخرى: حرف عطف سے ایک کلمہ کو دوسرے سے جوڑنا۔ ـ العنانَ: لگام پھیرنا۔ ـ الوسادةَ: تکیہ کو دوہرا کرنا۔ ـ الشيءَ: کو جھکانا، موڑنا۔ عَطِفَ ـَ عَطَفًا: لمبی پلکوں والا ہونا۔ عَطَّف الوسادةَ: تکیہ کو دوہرا کرنا۔ ـ الشيءَ: کو موڑنا، جھکانا۔ تَعَطَّفَ: جھکنا، مڑنا، مائل ہونا۔ ـ الثوبَ و بالثوب: کپڑا اوڑھنا تَعَاطَفَ في مشيته: ناز کے ساتھ سر ہلاتے چلنا۔ انْعَطَفَ: مڑنا۔ العَاطِف (فا) جمع عُطُف و عَطَفَة: ازار، گھڑ دوڑ کا چھٹا گھوڑا۔ ـ عند النحاة: حرف عطف جیسے واؤ۔ العَاطِفَة جمع عَاطِفَات وعَوَاطِف: عاطف کا مونث۔ العَطْف (مص): کجی، جھکاؤ، العِطف جمع أَعْطَاف و عِطَاف و عُطُوف: بغل۔ ـ من كل شيء: ہر چیز کا کنارا۔ عِطْفُ القوس: کمان کا کنارہ۔ عِطْفَا الرجُل: مرد کے دونوں پہلو۔ کہتے ہیں۔ ثَنَى عَنّي عِطْفَهُ: اس نے مجھ سے اعراض کیا اور مجھ پر زیادتی کی۔ هو يَنظر في عِطْفَيْهِ: وہ متکبر ہے۔ مَرَّ ثانيَ عِطْفِهِ: وہ تکبر کے ساتھ چلا۔ تَنَحَّ عن عِطْفِ الطريق: وہ سڑک کے درمیانے حصہ سے ہٹ گیا۔ العَطَف (مص) واحد عَطَفَة: پلکوں کی درازی (ن): درخت پر لپٹنے والی بیل (ن) عشق پیچاں العَطَفَة: عَطَفَ کا اسم نوع، انگور کی بیل کے لٹکتے ہوئے حصے۔ العِطَاف جمع عُطُف و أَعْطِفة: چادر، ازار، تلوار۔ قَوسٌ عَطْفَى: ٹیڑھی کمان۔ العَطُوف و العَاطُوف جمع عَوَاطِيف: پھندا جس میں ٹیڑھے سرے کی لکڑی لگی ہو۔ العَطِيف جمع عَطائِف: کمان۔ المِعْطَف جمع مَعَاطِف: گردن، گلا، بڑی چادر جو سردی یا بارش سے بچنے کیلئے کپڑوں کے اوپر پہنی جاتی ہے۔ المِعطف جمع مَعَاطِف: تلوار۔ مُنْعَطَفُ الوادي و مُنْعَطِفُهُ: وادی کا موڑ۔

۲۔ عَطَفَ ـِ عَطْفًا و عُطُوفًا تِ الناقةُ على ولدها: اونٹنی کا اپنے بچہ پر مہربان ہونا، اس کا دودھ بہنا۔ ـ اللّهُ قلبَهُ و بقلبه: اللہ کا کسی کے دل کو مہربان کردینا۔ عَطَّفَ الناقةَ على ولدها: اونٹنی کو اپنے بچہ پر مہربان کرانا۔ تَعَطَّفَ عليه: کے لئے مہربان ہونا اور اس پر احسان کرنا۔ تَعَاطَفَ القومُ: بعض کا بعض پر مہربانی کرنا۔ اِسْتَعْطَفَ ہُ: سے مہربانی طلب کرنا، سے مہربانی کا خواہاں ہونا۔ العَاطِفَة جمع عَاطِفَات و عَوَاطِف: شفقت۔ العَطُوف جمع عُطُف: شفیق، احسان کرنے والا، محسن۔ امرأةٌ عَطُوف: خاوند یا بچوں سے محبت کرنے والی۔ العَطِيف من النساء: نرم و نازک فرمانبردار عورت۔

عَطَفَ ـِ عَطْفًا ھ: کو موڑنا، جھکانا۔ ـ الى: کی طرف جھکنا، مائل ہونا، سے رغبت ہونا۔ ـ على: کا مددگار ہونا، ہمدرد ہونا، سے وابستہ اور منسلک ہونا، کیلئے دل میں محبت، چاہ، شفقت، لگن، پیار رکھنا، کا شائق ہونا، کے ساتھ ہمدردی رکھنا، سے اظہار ہمدردی کرنا، پر ترس و رحم کھانا یا محسوس کرنا، پر افسوس وغیرہ محسوس کرنا۔ عَطَفَ به على: کو کی طرف مائل کرنا۔ ـ على: کیلئے محبت یا ہمدردی بیدار کرنا۔ میں دلچسپی جگانا۔ عطف به على: کو کی قدر دانی کرانا، دل کے قریب کرنا۔ عطف به عن: کو سے باز رہنے کیلئے کہنا، کو سے برگشتہ کرنا، منحرف کرنا، بیگانہ کرنا۔ عَطَّفَ ھ: کو تہ کرنا، دوہرا کرنا، ـ ہ: کو مددگار بنانا، کا دل نرم کرنا، کے جذبات ابھارنا۔ ـ ہ على: میں کیلئے محبت، ہمدردی، رحمدلی یا شفقت بیدار کرنا۔ ـ ہ/ ھ على / نحو: کو یا کے دل کو کیلئے محبت، شفقت وغیرہ سے بھر دینا۔

تَعَطَّفَ على: کا مددگار ہونا، سے وابستہ ہونا، کا شائق ہونا، کے ساتھ ہمدردی رکھنا، کیلئے شفقت محبت وغیرہ رکھنا یا محسوس کرنا، پر افسوس وغیرہ محسوس کرنا۔ تَعَطَّف ب: کو نوازش یا عزت افزائی کیلئے کرنا۔ تَعَطَّفَ بالعطاف: کوٹ پہننا۔ اپنے آپ کو کوٹ یا لبادہ یا چوغہ یا چادر میں لپٹنا۔ اِنْعَطَفَ: جھکنا، مڑنا، ٹیڑھا ہونا، خمیدہ ہونا۔ ـ إلى: کی طرف مڑنا، گھومنا ـ على / إلى: پر آمادہ یا رضامند یا تیار ہونا، سے وابستہ ہونا، کا شائق ہونا، کی ساتھ ہمدردی رکھنا، سے محبت رکھنا، یا محسوس کرنا۔ اِنْعَطَفَ: پھرنا، مڑنا، تَعَاطَفَ: باہم محبت دل میں رکھنا، ایک دوسرے سے وابستہ ہونا

اِعْتَطَفَ بالعطاف بمعنی تعطف بالعطاف۔ اِسْتَعْطَفَ ہُ: کی ہمدردی طلب کرنا، کی محبت و شفقت کا خواہاں ہونا۔ سے التماس کرنا، التجا کرنا، کی منت سماجت کرنا، سے ملتجی ہونا۔ اِسْتَعْطَف: محبت یا شفقت کی نمائش کرنا، ظاہر کرنا، کا مظاہرہ کرنا، صلح جو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

یانہ اخلاق ظاہر کرنا۔ ـــ ہٗ او خاطِرَہٗ: کو جیتنے کی کوشش کرنا، کی ہمدردی حاصل کرنے کا دل ہاتھ میں لینے، کی تائید حاصل کرنے، کو اپنا طرف دار بنانے یا اپنے ساتھ ملا لینے کی کوشش کرنا، کو منانے یا راضی کرنے کا خواہاں ہونا، کو دوست بنانے کی کوشش کرنا۔ ـــ ہ: کو کشش کرنے، کھینچنے یا حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ عَطْف: جھکانا، موڑنا، جھکنا، مڑنا، خیدگی، کونہ، گوشہ۔ ـــ علی: کے ساتھ ہمدردی، محبت، وابستگی، کا شوق، سے رغبت، اداۃ (حرف) العطف: حرف عطف۔ Conjunction۔ عطف البیان: عطف بیان۔ دیکھو عربی گرامر)۔ عِطْف جمع اَعطاف: جسم کا پہلو۔ لَیِّنُ الاعْطاف: اثر پذیر، تاثر پذیر۔ مطیع، اطاعت شعار تَرنَحتُ الاعطاف: وہ بے خود ہو گئے وہ وجد میں آ گئے۔ ضَمّ بین اعطافہ: پر مشتمل ہونا، پر محیط ہونا۔ عَطْفَة: موڑ، مڑنا، اعوجاج، موڑنا، پھیرنا، پیچ، بل جمع عَطَفات و عُطَف: بندگلی، عِطَاف جمع عُطُف و اَعطِفَة: کوٹ، لبادہ، چوغہ، چادر۔ عَطُوف: رحم دل، ترس کھانے والا، ہمدرد، پیارا، محب، محبت کرنیوالا، مہربان، محبت آمیز۔ عُطُوفَة: محبت، شفقت، وابستگی، فیض رسانی۔ نیک ارادہ نام سے پہلے تعظیمی لفظ۔ صاحب العُطُوفَة: والاحضرت، رحمت مآب۔ مِعْطَف جمع مَعَاطِف: کوٹ، اوورکوٹ، لبادہ، چوغہ، گون، فراک۔ مِعْطَفٌ مُشَمَّعٌ: برساتی (Rain coat)۔ مِعْطَفُ فرو: فرکوٹ (Fur coat)۔ عَاطِفَة جمع عَوَاطِف: عاشقانہ محبت، شفقت، چاہ، لگن یا پیار، دلی فیض رسانی، پریشانی، تشویش، ہمدردی، ترس، رحم، وابستگی، شوق، رغبت، مہربانی، نوازش، کرم، احساس، جذبہ، جذباتیت، عَاطِفِی: جذباتی، جذبات انگیز، حساس، ہمدرد، محبت آمیز۔ عَاطِفِیہ: جذباتیت۔ مُنْعَطَف جمع مُنْعَطَفات: (سڑک کا) موڑ۔ موڑنا، پیچ در پیچ ہونا۔ گلی، تنگ گلی۔

عطل: ۱۔ عَطِلَ ـ عَطَلاً و عُطُولاً ت المرأۃُ: عورت کا بے زیور ہونا۔ صفت عَاطِلٌ و عَاطِلَةٌ و عُطُلٌ جمع عَاطِلات و عَوَاطِل و عُطَّل و اَعْطال ـــ عطالةً الاجیرُ: مزدور کا بے کار ہونا۔ عَطِلَ ـُ عَطَلاً و عُطُولاً ت المرأۃُ: عورت کا بے زیور ہونا۔ ـــ عَطَلاً الرجُلُ من المال او الادب و کذا القوسُ من الوَتَر و الفرسُ من الرَّسَن: آدمی کا مال و ادب سے، کمان کا تانت سے اور گھوڑے کا گلے میں ڈالنے والی رسی سے خالی ہونا صفت عَاطِل

و عُطُل و عُطْل جمع اَعْطَال۔ عَطَّلَ الشیَٔ: کو بے کار چھوڑ دینا۔ ـــ المرأۃَ: عورت کے زیور اتار لینا۔ ـــ القوسَ: کمان سے تانت نکال لینا۔ ـــ ت الابلَ: اونٹوں کا بغیر چرواہے کے ہونا۔ ـــ الابلَ: اونٹوں کو چرواہے کے بغیر چھوڑنا۔ البئرَ: کنویں پر جانا چھوڑ دینا، ہر وہ چیز جس کو رائج کر کے چھوڑ دیا گیا ہو وہ مُعَطَّل ہے، کہتے ہیں عُطِّلَتِ الحدودُ او الثغورُ: سرحدیں بلا محافظ چھوڑ دی گئیں۔ عُطِّلَتِ المزارعُ: کھیتیاں جوتی اور بوئی نہیں گئیں۔ عُطِّلَت الرعیةُ: رعایا بغیر والی کے رہیں۔ ایسے لوگوں کو مُعَطَّلون کہتے ہیں۔ تَعَطَّلَ: بغیر کام رہنا، بیکار رہنا۔ واسْتَعْطَلَ ت المرأۃ: عورت کا بے زیور ہونا۔ رجلٌ عَاطِلٌ م عَاطِلَة: مال و ادب سے خالی شخص، عام لوگ کہتے ہیں۔ رجلٌ عاطِلٌ: اخلاق سے عاری شخص۔ امرأۃ عاطِلَة: بری عورت۔ طوائف، بیسوا، آبرو باختہ۔ العُطْلَة: بیکاری، بے روزگاری۔ العَطْلاء من النساء: بے زیور عورت، العَطَالَة او القُصُورُ: جسمانی معذوری۔ التعطیل: عَطَّل کا مصدر۔ بے کار رہنا، مذہب التعطیل: صفات الٰہیہ کو نہ ماننے والوں کا مذہب۔ المِعْطَال من النساء: بے زیور رہنے والی عورت۔ المُعَطِّلَة: مذہب تعطیل کو ماننے والے۔

۲۔ العَطَل جمع اَعطال: گلا، شخص جسم۔ کہتے ہیں۔ ما اَحْسَنَ عَطَلَهُ: اس کا قد کیسا اچھا ہے۔ العَطِیل: نر کھجور کے خوشے کا تنا۔ العَیْطَل: بمعنی عطیل، خوبصورت لمبی گردن والی۔

○ عَطِلَ ـ عَطَلا من: سے محروم اور خالی ہونا، کو نہ رکھنا، کی کمی ہونا، کی قلت ہونا۔ ـ: بے کار ہونا، کام نہ کرنا، آرام کرنا، کام کے بغیر ہونا، بے روزگار ہونا۔ عَطَّل ہ/ ہ: کو نگرانی یا نگہداشت کے بغیر چھوڑ دینا، کو نظر انداز کرنا، کو بغیر کام کے چھوڑ دینا، بیکار چھوڑ دینا۔ ـ ہ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کا سلسلہ منقطع کرنا، کو معلق کرنا، معطل کرنا، کو ملتوی کرنا، موقوف کرنا، ٹالنا، کو بند کرنا، چھوڑنا، ترک کرنا، پر وقتی طور پر پابندی لگانا، کو بند کرنا (جیسے کسی اخبار کی اشاعت کو)، کو سخت نقصان پہنچانا، تباہ کرنا، برباد کرنا، مفلوج کرنا، کو بے اثر بنانا، کا اثر توڑنا، مشین موٹر وغیرہ نہ چلانا، کو اٹھا رکھنا، کو غیر نافذ العمل بنانا (موٹر وغیرہ) بند کرنا (دفتر وغیرہ) بند کرنا، بند رکھنا۔ تَعَطَّل: کام یا روزگار کے بغیر رہنا، بے روزگار ہونا یا ہو جانا۔ تعطل عن العمل: بے روزگار ہونا یا ہو جانا، ناکارہ ہونا یا ہو جانا، رک جانا،

ہونا یا ہو جانا، بے عمل ہونا یا ہو جانا، رک جانا، دیر ہو جانا، معطل ہو جانا، موقوف ہو جانا، ملتوی ہو جانا، منقطع ہونا یا ہو جانا (موٹر، مشین) کا رک جانا، کام نہ کرنا، کو سخت نقصان پہنچنا، نہ چلنا، بند ہو جانا، نافذ العمل نہ رہنا، قانونی نہ رہنا، غیر موثر ہونا۔ عُطِّل من: سے عاری، محروم، خالی۔ عُطْل: نقصان، گھاٹا، خسارہ۔ عَطَل: بے روزگاری۔ عُطْلَة: بے روزگاری (عطلة عن الشُغل کا بھی یہی معنی ہے)۔ فرصت، تعطیل (چھٹی) تعطیلات چھٹیاں، آدھی چھٹی، وقفہ (Reces) جمع عُطلات و عُطَل: چھٹی، تعطیل، فراغت کا دن، عُطلة رسمیة: سرکاری چھٹی، ایام العطلة الرسمیة: سرکاری چھٹیاں۔ عُطْلَةُ الاسبوع: ہفتہ وار چھٹی ہفتہ اتوار Weakend۔ عُطْلَةٌ قَضَائیةٌ: عدالت کا وقفہ۔ عُطْلَةُ نِهَایَةِ الأُسْبُوع: ہفتہ وار چھٹی، تعطیل: روکنا، رکاوٹ، انقطاع، التواء (کسی سرگرمی) کا تعطل، عارضی پابندی، (اخبار کی اشاعت کی) بندش، نقصان رسانی، تباہی بربادی، مفلوج کرنا، بے اثر کرنا (موٹر وغیرہ) بند کرنا، (دفتر وغیرہ) بند کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ ماننے والوں کا مذہب۔ تعطیل حرکة المرور: آمد و رفت کی بھیڑ بھاڑ۔ عَاطِلٌ من: سے خالی، محروم، عاری۔ ـــ: بے کار، بے حرکت، بے عمل، سست کاہل، بے روزگار، بے کار، بے روزگار شخص، عضو عاطل: عضو بلا عمل۔ عَوَاطِل: چھٹیاں، تعطیلات۔ تَعَطُّل: بے روزگاری، بے کاری، بے عملی، سستی، کاہلی، مشین کا کام نہ کرنا، ناکارہ ہو جانا، ٹوٹ جانا۔ رکنا، ٹھہراؤ، تعطل عن العمل: بے روزگاری۔ مُعَطِّل: وہ شخص جو صفات الٰہیہ کا منکر ہو۔ مُعَطَّل: بے کار، سست، بے روزگار، مشین وغیرہ جو ناکارہ ہو گئی ہو، کام نہ کرتی ہو، موٹر وغیرہ جو چلنے کے قابل نہ ہو۔ بند کی ہوئی (موٹر)، بند کیا ہوا (دفتر)۔

عطم: اِعْتَطَمَ الرجُلُ: ہلاک ہونا، صفت عاطِم و عَطِیم جمع عُطُم۔ العُطُم: دھنی ہوئی روئی۔

عطن: ۱۔ عَطَنَ ـِ عَطْنًا و عُطُونًا العیرُ: اونٹ کو دوبارہ پانی پلانے کیلئے آرام دیا جانا۔ ـــ البعیرُ: اونٹ کا سیراب ہو کر بیٹھنا۔ صفت عَاطِن ج عُطَّان و عُطُون و عَطَنَة م عَاطِنَة جمع عاطنات و عَوَاطِن و عُطُون۔ عَطَّنَ الابلَ: اونٹوں کو دوبارہ پانی پلانے کے لئے آرام دینا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا سیراب ہو کر بیٹھ جانا۔ ـــ لِلابل: اونٹوں کے بیٹھنے کے لئے، جگہ بنانا۔ اَعْطَنَ الابلَ: پانی پلانے کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بعد دوبارہ پانی پلانے کے لئے اونٹوں کو آرام دینا۔
العَطَن (مص)، و المَعْطِن والمَعْطَن جمع مَعَاطِن: اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، حوض کے آس پاس بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ۔

۲۔ عَطَنَ ـِ عَطْنًا الجلدَ: کھال کو گوبر یا نمک میں ڈالنا۔ صفت مفعولی عَطِين و مَعْطُون۔ عَطِنَ ـَ عَطَنًا الجلدُ: کھال کا نمک یا گوبر میں ڈال کر چھوڑ دینا اور اس کا بدبودار ہونا۔ صفت عَطِن۔ عَطَّنَ الجلدَ: کھال کو گوبر یا نمک میں ڈالنا۔ اِنْعَطَنَ الجلدُ: کھال کو بدبودار ہونے تک نمک یا گوبر میں رکھا جانا۔ العِطان: گوبر یا نمک جس میں کھال کو رکھا جائے تا کہ بال الگ ہو جائیں۔ رجُلٌ عَطِن و عَطِينَةٌ: بدبودار شخص۔

۞ عَطَنَ ـُ عُطْنًا الجلدَ: رنگنے کے عمل میں کھال کو بال اتارنے کیلئے بھگونا ـــ الکتّانَ: کتان (سن) کو بھگو کر نرم کرنا۔ عَطِن ـَ عَطَنًا: کھال کا رنگنے کے عمل میں گلنا سڑنا۔ عَطَّن: بمعنی عَطَنَ۔ عَطَن: پانی کے گھاٹ کے قریب اونٹوں کے آرام کی جگہ۔ ضَيِّقُ العَطَن: تنگ ذہن، تنگ، محدود رَحْبُ العَطَن: وسیع الذہن۔ عَطِن: گلا سڑا، بدبودار۔ عَطِين: گلا سڑا، بدبودار۔

عطا: ا۔ عَطَا ـُ عَطْوًا الشيءَ و إليه: کو لینا ـــ إليه يدَهُ: اپنا ہاتھ کی طرف بلند کرنا۔ عَاطَى عِطَاءً و مُعَاطاةً الرجُلَ الشيءَ: کو چیز دینا۔ أَعْطَى إعطاءً هُ الشيءَ: کو کوئی چیز دینا ـــ البعيرُ او أعطى البعيرُ بيده: اونٹ کا مطیع ہونا۔ تعَطَّى تعَطِّيًا الامرَ: میں مشغول ہونا۔ عطیہ مانگنا۔ تَعَاطَى تَعَاطِيًا الشيءَ: کو لینا ـــ الامرَ: کام سرانجام دینا، یا اس میں مشغول ہونا۔ الرجُلُ: کسی چیز کو پکڑنے کے لئے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا ہونا۔ کہتے ہیں۔ تَعَاطَيْنَا فَعَطَوْتُهُ: ہم نے سخاوت میں مقابلہ کیا تو میں غالب آگیا۔ اِسْتَعْطَى اِسْتِعْطَاءً: عطیہ مانگنا۔ العَطَا والعَطَاء جمع أَعْطِيَة و جج أَعْطِيَات والعَطِيَّة جمع عَطَايَا و عَطِيَّات: عطا، عطیہ، ہر وہ چیز جو دی جائے۔ العَطَاءَة والعَطَاوَة: عطا، عطیہ، کہتے ہیں۔ ما أَعْطَاهُ للمال: وہ کتنا سخی ہے، وہ کتنا زیادہ مال دینے والا ہے۔ (خلاف قاعدہ) المِعْطَاء جمع مَعَاطٍ و مَعَاطِيّ: بہت دینے والا (مذکر اور مونث)۔

۲۔ عَطَّى تَعْطِيَةً الرجُلَ: سے نصف لینا، کی خدمت کرنا۔ عَاطَى عِطَاءً ا و مُعَاطاةً هُ: کی خدمت کرنا۔ سے نصف لینا۔

۳۔ عَطَّى تَعْطِيَةً الرجُلَ: کو جلدی کرنے کیلئے کہنا۔ تَعَطَّى تَعَطِّيًا: جلدی کرنا۔

۞ عَاطَى ہ ھ: کو کچھ دینا۔ أَعْطَى ہ/ل ھ: کو کچھ دینا۔ ـ ہ ھ: کو کچھ پیش کرنا، کے کچھ حوالے کرنا، کو کی پیشکش کرنا، کو کچھ عطا کرنا، کو کچھ دینا، کو سے سرفراز کرنا۔ أُعْطِيَ ھ: کچھ لینا، پانا، حاصل کرنا، کو کچھ ملنا، أَعْطَى دروسا: سبق دینا۔ أَعْطَى اقوالہ: گواہی دینا۔ أَعْطَى له الكلمةَ: کو بولنے کی اجازت دینا۔ أَعْطَاهُ بيده: کا مطیع ہونا۔ تَعَطَّى ہ: سے خیرات مانگنا؟ بھیک مانگنا۔ تَعَاطَى ھ: کچھ لینا۔ (دوا) لینا، نگلنا، (کام) سنبھالنا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کو شروع کرنا، کو ذمہ لینا، اختیار کرنا، میں مشغول ہونا، کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا۔ اِسْتَعْطَى بمعنی تَعَطَّى عَطًا: تحفہ، ہدیہ۔ عطاء جمع عطاءات: پیش کش، نذر۔ قَدَّم عطاءً: نذر پیش کرنا۔ عَطَاء جمع أَعْطِيَة: تحفہ، ہدیہ۔ معاطاة: (کسی سرگرمی، عمل) کو حاصل کرنے کی کوشش، جستجو (کی پریکٹس، (کا) کام، مشق، استعمال۔ إعطاء: عطیہ، پیشکش، گرانٹ، عطیہ دینا، انعام، انعام دینا۔ إسْتِعْطَاء: بھیک مانگنا، بھیک مانگ کر گزر کرنا۔ مُعْطٍ: دینے والا، عطیہ دینے والا۔ مُعْطًى: دیا ہوا جمع مُعْطَيَات: دی ہوئی مقدار، کمیت، تعداد، مفروضات، امور معلومہ، مبینہ حقائق، (Data)۔ مُسْتَعْطٍ: بھکاری، منگتا۔

عظّ: ا۔ عَظَّ ـُ عَظًّا هُ بالارض: کو زمین سے چپکا دینا ـــ تهُ الحربُ: کو جنگ کا آزمانا، تکلیف پہنچانا۔ عَاظَّ مُعَاظَّةً و عِظاظًا هُ: سے برا سلوک کرنا، سے جان پر کھیل کر لڑنا ـــ القومُ: جنگ میں ایک دوسرے سے سخت ہونا۔ العَظَّة: جنگ میں سختی۔

۲۔ عَظْعَظَ السهمُ: تیر کا جاتے ہوئے کانپنا اور ٹیڑھا ہو جانا ـــ الجبانُ: بزدل کا لڑائی میں پیٹھ پھیرنا ـــ في الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔

عظب: ا۔ عَظَبَ ـِ عَظْبًا الطائرُ: پرندہ کا تیزی سے اپنا پنکھا ہلانا۔

۲۔ عَظَبَ ـُ عَظْبًا و عُظُوبًا جلدُهُ: کی کھال کا خشک ہونا۔ العَاظِب و العَظِب: جنگل اور خشک جگہوں پر اترنے والا۔

۳۔ عَظَبَ ـِ عَظْبًا و عُظُوبًا على العمل صبر سے کام کرتے رہنا ـــ ت يدُهُ: ہاتھ کا کام کی وجہ سے سخت ہونا۔ عَظِبَ ـَ عَظَبًا على العمل: کام کی نگہداشت کرنا، کو صبر و استقامت سے برداشت کرنا۔ عَظَّبَ هُ عن بُغيته: کی خواہش کو ٹالنا، کی خواہش میں تاخیر کرنا ـــ هُ على الشيء: کو عادی بنانا، کو پر صبر کرنے والا بنانا۔

۴۔ عَظِبَ ـَ عَظَبًا: موٹا ہونا، فربہ ہونا، صفت عَظُوب۔

۵۔ عَظِيبُ الخُلُق: بدخو۔

عظر: عَظِرَ ـَ عَظَرًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ أَعْظَرَهُ الشرابُ: شراب کا کے معدہ میں ثقیل ہونا۔ اس سے العِظارة اسم آتا ہے۔ العِظَار: شراب کی وجہ سے امتلاء۔ العَظُور جمع عُظُر: شراب سے شکم سیر۔

عظل: ا۔ عَظَلَ ـُ و عَظِلَ ـَ عَظْلًا و تَعَاظَلَ واعْتَظَلَتِ الكلابُ او الجرادُ: کتوں یا ٹڈیوں کا ایک دوسرے پر سوار ہونا۔ عَظَّلَتِ الكلابُ او الجرادُ: کتوں اور ٹڈیوں کا ایک دوسرے پر سوار ہونا ـــ القومُ عليه: لوگوں کا کسی شخص پر مارنے کیلئے ہجوم کرنا۔ عَاظَلَ الشيءَ: پر سوار ہونا ـــ في الكلام: کلام میں تعقید لانا، کلام کی تکرار کرنا۔ الشاعرُ في القافية: تضمین کرنا ـــ بالكلام: اپنے پر لوٹ کر آنے والی بات کرنا۔ تَعَظَّلَ في اثره: کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، کا کھوج لگانا۔ تَعَظَّلَ القومُ عليه: لوگوں کا کسی پر اسے مارنے پیٹنے کیلئے ہجوم کرنا۔ العَاظِل والعَاظِلة والعَظْلَى من الجراد: ایک دوسرے پر سوار ٹڈی۔

۲۔ تَعَظْلَمَ الليلُ: رات کا سخت تاریک و سیاہ ہونا۔ العَظْلَمَة: تاریکی۔

۞ عَاظَلَ الكلامَ: اپنی گفتگو میں تکرار کرنا، معنوی تکرار سے کام لینا، بات کرتے ہوئے وہی کچھ دوبارہ کہنا۔

عظم: ا۔ عَظُمَ ـُ عِظَمًا و عَظَامَةً: بڑا ہونا۔ صفت عظيم جمع عُظَمَاء و عِظَام و عُظُم۔ الامرُ عليه: پر کام مشکل ہونا، کے لئے بھاری، ناقابل برداشت ہونا، گراں ہونا، کو تکلیف دینا، عَظَّمَهُ: کی تعظیم و توقیر کرنا۔ أَعْظَمَ الامرُ: بڑا ہونا ـــ الشيءَ: کو بڑا کرنا۔ کو بڑا سمجھنا۔ کہتے ہیں۔ ما يُعظمني ان افعل كذا: مجھے ایسا کرنے سے کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ تَعَظَّمَ: تکبر کرنا۔ تعَاظَمَ: تکبر کرنا ـــ هُ الامرُ: پر گراں ہونا، بڑا ہونا۔ کہتے ہیں۔ هو امرٌ لا يتعاظمه شيءٌ: یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اِسْتَعْظَمَ: تکبر کرنا ـــ الامرَ: کو بڑا سمجھنا ـــ الشيءَ: کا بڑا حصہ لینا۔ العُظم: بڑائی۔ عَظْمُ الشيء جمع أَعْظَام: چیز کا بڑا یا بیشتر حصہ۔ العِظَم والعِظَم: بڑائی۔ عَظَمُ الطريق: راستہ کا درمیان العُظّام و العُظّام مونث عُظَامَة و عُظَّامَة: بڑا، عظیم۔ العِظامة والعُظْمَة والإِعْظَامة: وہ گدی جس کو عورتیں سرین

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پر بڑا ظاہر ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ العُظَّامَة: بمعنی: العِظَامة ـ والعَظَمَة والعَظَمُوت غرور، نخوۃ، فخر۔ عَظَمَاتُ القوم: سرداران قوم۔ العَظِيْمَة جمع عَظَائِم: عظیم کا مونث۔ سخت مصیبت۔ عَظَائِمُ اللّٰه: اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے کام، مُعْظَمُ الشیٔ جمع مَعَاظِم: کا بیشتر کا اکثر کہتے ہیں۔ إن لفلان مَعَاظِمَ واجبةَ المراعاة: فلاں شخص کے لئے بڑے بڑے حقوق ہیں، جن کی رعایت ضروری ہے۔ المُعْظَمَة: سخت مصیبت۔

۲۔ عَظَمَ ـُ عَظْمًا الكلبَ: کتے کو ہڈیاں کھلانا۔ ـ عَظْمَةً الرجُلَ: کی ہڈیوں پر مارنا۔ عَظَّمَ الشاةَ: بکری کی ہڈی ہڈی کاٹ دینا۔ اَعْظَمَ الكلبَ عَظْمًا: کتے کو ہڈی کھلانا۔ العَظْم (مص) جمع اَعْظُم و عِظَام و عِظَامَة: ہڈی۔ العُظْمَة (مص) ہڈی کا ٹکڑا۔ العَظَمَة من الساعد او اللسان جمع عَظَمَات: کلائی یا زبان کا موٹا حصہ۔ العَظْمِيّ (ح): سفیدی مائل کبوتر۔

۳۔ اِسْتَعْظَمَ الامرَ: کا انکار کرنا۔

◌ عَظُمَ ـُ عِظَمًا و عَظَامَة: بڑا، عظیم، شاندار، عالیشان، پرشکوہ، رعب دار، مرعوب کن، یا طاقتور ہونا یا ہو جانا، بہت بڑا، بہت وسیع، بہت ضخیم، مہیب، حیرت انگیز یا عظیم انسان ہونا، ـ علی: کے لئے سخت رنجدہ، تکلیف دہ، ذہنی کوفت کا موجب یا ظالمانہ و مستبدانہ ہونا۔ عَظَّمَ ہ / ہ کو زیادہ بڑا، زیادہ شاندار، زیادہ پرشکوہ، زیادہ رعب دار، زیادہ مرعوب کن یا زیادہ طاقت ور بنانا کے زیادہ بڑا، زیادہ شاندار وغیرہ بننے کا باعث ہونا، کی عظمت، بڑائی، شان، شوکت، طاقت، کروفر یا رونق وغیرہ بڑھانا۔ ـــ ہ کی قیمت یا دلکشی بڑھانا، کو بڑھانا، میں اضافہ کرنا کو بڑا کرنا، میں مبالغہ کرنا، بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ـــ ہ / ہ کو بڑھانا، چڑھانا، ترقی دینا، عظمت عطا کرنا، کی ثناء کرنا، حمد کرنا، ستائش کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا، سرفراز کرنا، اَعْظَمَ بمعنی عَظَّمَ نیز اَعْظَمَ ہ کو بہت اہمیت دینا، کو بڑا، وسیع، مہیب، عظیم، بہت بڑا یا حیرت انگیز، عظیم الشان سمجھنا۔ ـــ ہ کو سخت، رنج دہ، ظالمانہ یا مستبدانہ پانا۔ تَعَظَّمَ ب پر فخر کرنا، کی ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، کو لہرا لہرا کر فخر سے دکھانا۔ ـ خود پسند، مغرور یا متکبر ہونا، دیدہ دلیری کرنا، تَعَاظَمَ مغرور ہونا، متکبر ہونا، پُرنخوت، بڑا ہونا، شاندار ہونا، پرشکوہ ہونا، رعب دار ہونا، مرعوب کن ہونا، وسیع ہونا، حیرت انگیز ہونا، ـ ہ وزن، معنی، مفہوم یا مطلب اور اہمیت میں کے برابر ہونا۔ ـ ہ: کے لئے وزن دار، سنجیدہ، تشویشناک، سنگین یا غیر معمولی ہونا۔ لایتعاظمه شانُ العدو: دشمن کی اہمیت اسے بہت زیادہ یا ناجائز طور پر متاثر نہیں کرتی۔ اِسْتَعْظَمَ: مغرور ہونا، متکبر ہونا، نخوت پسند، دیدہ دلیر ہونا۔ ـ ہ کو بڑا، معنی خیز یا اہم سمجھنا۔ صاحب العظمة: اعلیٰ حضرت، والاحضرت His Highness۔ اعلیٰ حضرت، جہاں پناہ، ولی نعمت، جلالۃ الملک His Majesty۔ عظمة السلطان: اعلیٰ حضرت، والا حضرت سلطان۔ His Highness the Sultan۔ فرصة عظيمة سنہری موقع۔ عِظَامِي: عالی خاندان کا، خاندانی، امیرانہ انداز والا، امیر، شریف آدمی۔ اعاظم رجال مصر: قاہرہ کے نمایاں ترین مرد۔ جريمة عُظْمَى: مستوجب قتل جرم (Capital crime)۔ السواد الاعظم: عظیم اکثریت، عوام کی اکثریت۔ الصدر الاعظم: سابق سلطنت عثمانیہ میں وزیر اعظم کا لقب، فی مُعْظَمه: زیادہ تر، بیشتر، عموماً، بالعموم، عام طور پر۔

عظا: عَظَا ـُ عَظْوًا فلانا: کو غمگین کرنا، کی غیبت کرنا، کو بھلائی سے روکنا، کو زہر پلانا۔

عظی: عَظَى ـِ عَظْيًا فلاناً: کو غمگین کرنا۔ العِظاءة والعَظَاءة والعَظَايَة والعِظَايَة جمع عَظَاء والعَظَاءة والعَظَاية والعِظَايَة جمع عَظًا و عِظَاء و عَظَايا و عَظَايات (ح) ایک جانور چھپکلی کے مشابہ، عوام کے ہاں سَقَّايَة کے نام سے معروف ہے۔ بڑی چھپکلی۔

عف ۱۔ عَفَّ ـِ عَفًّا و عِفَّة وعَفَافًا وعَفَافَة: حرام یا غیر مستحسن کام سے رکنا، پاکدامن ہونا، صفت عَفِيف و عَفّ جمع اَعِفَّة واَعِفَّاء و عَفُّون ـ م عَفِيفَة و عَفَّة جمع عَفِيفَات و عَفَائِف و عَفَّات، ـ عن كذا: سے اجتناب کرنا، سے رکنا۔ اَعَفَّ اللّٰه فلانا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو پاکدامن کرنا۔ تَعَفَّفَ پاکدامن ہونا، پاکدامن بننا۔ ـ عن كذا: سے باز رہنا۔ اِعْتَفَّ و اسْتَعَفَّ عن الخبيث: کریہ چیز یا کام سے رکنا۔ ـ البعيرُ اليبيسَ: اونٹ کا مٹی کے اوپر، اوپر کی خشک گھاس چرنا۔ العِفَّة (مص): پارسائی، پاکدامنی، طہارت بدن۔

۲۔ تَعَفَّفَ: تھن کے بقیہ دودھ کو پینا۔ تَعَافَّ الناقةَ: اونٹنی کو دوسری بار دوہنا۔ العُفَّة و العُفَافَة: تھن کا بقیہ دودھ کہتے ہیں۔ ساله فما أعطاه الا عُفَافَة: اس نے مانگا تو تھوڑا سا دیا۔

marfat.com

۳۔ تَعَافَّ المريضُ: علاج کرنا۔ العِفَاف: دواء۔

۴۔ العِفَّان: کہتے ہیں، جاء علی عِفَّانِ ذلك: وہ وقت پر آیا۔ وہ فلاں وقت میں آیا۔

◌ عَفَّ ـِ عِفًّا و عفافًا عن: حرام اور فحش اور ناشائستہ کاموں سے پرہیز کرنا۔ عَفَّ ـِ عِفًّا و عَفَافًا: عیاشی سے احتراز کرنا، پارسا ہونا، نیک ہونا، پرہیزگار ہونا، عفیف ہونا، پاکباز، شریف یا حیادار ہونا، پاک ہونا۔ تَعَفَّفَ بمعنی عَفَّ نیز تعفف عن: سے دبکنا، سے کترانا، سے بچنا، سے کنی کترانا۔ سے شرمسار ہونا، خجل ہونا، عَفّ: پاکدامن، پاکباز، نیک، پاک، مہذب، شائستہ، دیانت دار، خداترس، عَفَاف و عِفَّة: عیاشی سے احتراز یا پرہیزگاری، پارسائی، نیکی، پاکدامنی، پاکیزگی، شستگی، سلیقہ، معقولیت، شرافت، حیا، پاکبازی، دیانت، دیانت داری، ایمانداری، عفیف: بمعنی عَفّ۔ اعف زیادہ پاکدامن، زیادہ نیک، زیادہ معقول، زیادہ مہذب، زیادہ شائستہ، زیادہ دیانتدار۔ تَعَفُّف: پرہیزگاری، پارسائی، نیکی، شرافت، حیا، پابندی۔ مُتَعَفِّف: بمعنی عفیف۔

عفت: عَفَتَ ـِ عَفْتاً الشیءَ: کو موڑنا، توڑنا ـ كلامَهُ و فی كلامِهِ: بوجہ لکنت بولنے میں منہ ٹیڑھا کرنا صفت: عَفَّات

عفج: عَفَجَ ـِ عَفْجًا هُ بالعصا: کو لاٹھی مارنا۔ العَفْج والعِفْج والعَفَج والعَفِج جمع اَعْفَاج و عِفَجَة: آنت، امعا۔ المِعْفَجَة والمِعْفَاج لاٹھی، کپڑے دھونے کی موگری۔ عوام اسے مِخبَاط کہتے ہیں۔

عفد: عَفَدَ ـِ عَفْدًا و عَفَدَانًا: دونوں پیر ملا کر کودنا۔ اِعْتَفَدَ: بھوک سے مرنے کیلئے اپنے آپ پر دروازہ بند کر لینا اور سوال نہ کرنا۔

عفر ۱۔ عَفَرَ ـِ عَفْرًا هُ فی التراب: کو مٹی میں لتھیڑنا، زمین میں دھنسانا۔ الشیٔ کو زمین پر پٹک دینا۔ عَفِرَ ـَ عَفَرًا و اسْتَعْفَرَ: خاکستری رنگ کا ہونا، خاک آلود ہونا۔ صفت: اَعْفَر۔ عَفَّرَهُ فی التراب: کو مٹی میں لتھیڑنا، زمین میں دھنسا دینا۔ کہتے ہیں۔ قد عُفِّرَ و اُرْغِمَ: اُسے ذلیل کیا گیا۔ ـــ ت المرأةُ فی الفِطام (عورت کا) بچہ کا دودھ چھڑانے کیلئے پستان پر مٹی لگانا۔ تَعَفَّرَ و اِنْعَفَرَ فی التراب: مٹی میں لوٹنا۔ ـــ الشیٔ: خاک آلود ہونا۔ اِعْتَفَرَ الشیٔ: خاک آلود ہونا۔ الثوبَ فی التراب: کپڑے کو مٹی میں لتھیڑنا۔ ـــ الرجُلَ کو زمین پر پٹک دینا۔ العَفْر و العَفَر (مصدر) جمع اَعْفَار: مٹی، خاک، العِفْر و العُفْر (ح) نر سؤر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مطلق سؤر۔ العُفْرۃ: خاکی رنگ۔ الاَعْفَر (ج): ہرن کی ایک قسم جو دوڑنے میں کمزور ہوتا ہے۔ العَفْراء جمع عُفْر: اعفر کا مونث۔ العَفِير والمَعْفُور: مٹی میں لتھڑا ہوا۔

۲۔ عَفَّرَ الشَّیْءَ: کو سفید کرنا۔ تَعَافَرَ الثرِيدُ: ثرید کا سفید ہونا۔ العَفراء: سفید زمین۔ ــــ من ليالي القمر: چاند کی تیرھویں رات۔

۳۔ عَفَرَ اللحمَ: گوشت کو دھوپ میں ریت پر خشک کرنا۔ عُفْرَۃُ وعُفُرَّۃُ وعَفَرَّۃُ الحرِّ: گرمی کی شدت۔ العَفِيرُ: دھوپ میں ریت پر خشک کیا جانے والا گوشت۔

۴۔ عَفَرَ الكرمَ ونحوَهُ: کٹائی کے بعد انگور وغیرہ کے بچے ہوئے پھل جمع کرنا۔ ایسے پھل کو عُفَارَہ کہتے ہیں (عام زبان میں)۔ العَفَّار: کٹائی کے بعد انگور وغیرہ کے پھل جمع کرنے والا (عام زبان میں) المُعَافِر: ساتھیوں کے ہمراہ چلنے والا تاکہ ان کے بچے ہوئے سے کچھ حاصل کرے۔

۵۔ اِعْتَفَرَ الرجلَ: پر کودنا۔ ــــ فلانٌ: قادر ہونا، قوی ہونا۔ ــــ ہُ الاسدُ: شیر کا اپنے شکار کو پچھاڑنا، چیرنا پھاڑنا۔ العُفُر: بہادر، بہت موٹا۔ العِفر: زسور۔ رجل عِفْرٌ: خبیث مرد۔ رجُلٌ عِفِرٌّ وعِفِرّی وعُفَارِيَة: خبیث مرد۔ العُفْرَۃ والعَفَرَۃ من الديك: مرغ کی گردن کے بال۔ ــ من الانسان: انسان کے درمیانی سر کے بال۔ ــــ من الاسد: شیر کے ایال۔ العَفَارَۃ: خباثت۔ برائی۔ العِفْرِيَة: بڑا سخت مکار۔ خبیث ــــ والعِفراۃ من الديك: مرغ کی گردن کے بال۔ من الانسان: انسان کے سر کے پچھلے حصہ کے بال، کہتے ہیں۔ جاء نَافِشًا عِفْرِيَتَهُ: وہ غصہ میں بھرا ہوا آیا۔ العِفِرِّيْن: کامل قوی مرد، چالاکی سے کاموں کو کر ڈالنے والا۔ عِفِرِّين: شیروں سے بھری ہوئی جگہ۔ ليثُ عِفِرِّين: شیر۔

۶۔ العُفُر: دوری۔ طوالت زمانہ۔ العُفْرَۃ: مخلوط لوگ۔ عُفُرَّۃُ وعَفَرَّۃُ البرد: سردی کی شدت۔ العَفَار (واحد عَفارۃ) بغیر شکر کا ستو۔ (ن) نوہ درخت جس سے آگ نکالنے کا کام لیا جائے۔ العَفَّار: مادہ کھجور میں نر کھجور کا بکلہ (پھول) لگانے والا۔ خُبْزٌ عَفِيرٌ: بے سالن کی روٹی۔ العَفِيرَۃ: کبریلا کی گولی۔

۷۔ تَعَفْرَتَ: تو یو ہونا، شریر ہونا۔ العِفْرِيت جمع عَفَارِيت مونث۔ عِفْرِيتَۃ: سخت خبیث، چالاکی سے کاموں کو کر ڈالنے والا (انسان، جنات اور شیاطین میں سے)۔

۸۔ عَفْرَسَہُ: کو پچھاڑنا، پر غالب آنا۔ العِفْرِس والعِفْرِيس والعِفْراس والعُفْرُوس والعَفَرْنَس (ج): شیر۔ العَفَارِيس (ج) شتر مرغ۔

○ عَفَرَ ـِ عَفْرًا ہ/ ہ (بالتراب) کو مٹی سے ڈھانکنا، کو گندا کرنا، پر دھبا ڈالنا، کو مٹی سے بھرنا، کلونسنا۔ عَفَّرَ بمعنی عَفَرَ نیز عَفَّرَ ہ: پر مٹی چھڑکنا، بالیں جمع کرنا۔ عَفَر جمع أعْفَار: دھول گرد، غبار، گرد وغبار۔ عُفَار دھول، گرد، غبار، گرد وغبار۔ عَفَارَۃ جمع عَفَارَات: پھوار۔ أعْفَر م عَفْرَاء: خاکی رنگ کا۔ يَعْفُور: خاکی رنگ کا ہرن۔ غزال۔ تعفير: چھڑکنا، غبار یا پاؤڈر چھڑکنا۔ تَعَفْرَتَ: بھوت پریت یا شیطان جیسا رویہ اختیار کرنا یا ان کی طرح پیش آنا۔ عِفْرِيت جمع عَفَارِيت: بغض پرور، کینہ جو، بدباطن، شرارتی، شرانگیز، عیار، مکار، کائیاں، فریبی، چالباز، بھوت پریت، آسیب، بدروح، بھوت، بے رحم خونخوار شخص، شیطان کا بچہ، بھتنا، شیطان، شوخ وشرارتی بچہ۔ ولدٌ عفريت: شرارتی بچہ، ناکارہ شخص۔ عَفْرِيتَۃ: اونچا کرنے کی کل، جیک (Jack) عَفْرَتَۃ: بے رحمی، خونخواری، بدبدمعاشی، بدذاتی، شیطانی فن، کالا علم جادو، گندا فریب، دھوکا، چال۔ عَفَارِم: شاباش! مرحبا! (Well done! bravo)۔

عفس: ۱۔ عَفَسَ ـِ عَفْسًا ہ: کو پچھاڑنا اور روندنا، کو زمین پر چپٹا دینا، کو زمین سے لگا دینا، کو سختی کے ساتھ زمین کی طرف کھینچنا۔ ــــ ہُ برجلہ: کی سرین پر لات مارنا۔ عَافَسَہُ: سے کشتی لڑنا، کی طرف توجہ کرنا۔ کہتے ہیں۔ بات يُعَافِسُ الامورَ: وہ معاملات سے نپٹنے لگا۔ تَعَافَسَ واِعْتَفَسَ القومُ: آپس میں کشتی لڑنا۔

۲۔ عَفَسَ ـِ عَفْسًا ہُ عن حاجتہ: کو اس کی ضرورت سے باز رکھنا، روکنا۔ ــــ الماشيةَ: جانوروں کو چارہ کے بغیر رکھنا۔

۳۔ اِنْعَفَسَ في التراب: خاک آلود ہونا۔ ــ في الماء: پانی میں غوطہ لگانا۔ العِفَاس: فساد۔

عفش: عَفَشَ ـِ عَفْشًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ العَفْشُ (مص) عند العامة: سامان، کہتے ہیں۔ شیٔ عَفْشٌ نَفْشٌ: چیز جس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ العُفَاشَۃ: ناکارہ لوگ۔ الأعْفَش: کمزور نظر والا۔

○ عَفْش: فضلہ، گندگی، غلاظت، میلا، ردی چیز، فضول شے، کاٹ کباڑ، ردی مال، سامان، گھر کا منقولہ سامان، فرنیچر (کرسی میز وغیرہ)۔

عفص: ۱۔ عَفَصَ ـِ عَفْصًا ہُ: کو اکھیڑنا۔ ــــ حَقَّہُ منہ: سے حق لے لینا۔

۲۔ عَفَصَ ـِ عَفْصًا الرجلَ: پر کشتی میں غالب آنا۔ عَافَصَ مُعَافَصَۃً ہُ: سے کشتی لڑنا۔

۳۔ عَفَصَ ـِ عَفْصًا ہُ: کو موڑنا۔ ــــ واَعْفَصَ القارورۃَ: شیشی میں کارک لگانا۔ العَفَص: ناک کا ٹیڑھا پن۔ العِفَاص: کارک، ڈاٹ، شیشی کا سربند۔

۴۔ عَفَصَ الثوبَ: کپڑے کو مازو سے رنگنا۔ أعْفَصَ الحِبرَ: روشنائی میں مازو ڈالنا۔ العَفْص (واحد عَفْصَۃ): مازو، مازو کا پیڑ، درخت بلوط کی ایک قسم۔ العَفْصِيَّة (ن) سرو درخت کی ایک قسم۔

۵۔ العَفِص: کسیلا۔ العُفُوصَۃ: کسیلا پن۔

○ عَفْص: شاہ بلوط کے سیب، مازو، ماجو۔ عَفِص: تیز، ترش، قابض اور تلخ۔ عُفُوصَۃ: تیزی، ترشی، تلخی، کسیلا پن۔

عفط: ۱۔ عَفَطَ ـِ عَفْطًا وعَفِيطًا وعَفَطَانًا ت العنزُ: بکری کا ریح خارج کرنا۔ ــ ت الضَّأنُ: بھیڑ کا چھینکنا۔ ــــ عَفْطًا الراعي: چرواہے کا بکری کے گوز کی طرح آواز نکالنا۔ ــ بغنمہ: بھیڑ کو ڈانٹنا یا بلانا، اور اس کے لئے بھیڑ کی چھینک کی مانند آواز نکالنا۔ العَافِط (فا) والعَفِط: بہت گوز مارنے والا۔ العَافِطَۃ: عافط کا مونث، بھیڑ۔ کہتے ہیں۔ مالَہُ عَافِطَۃٌ ولا نَافِطَۃٌ: اس کے پاس نہ بھیڑ ہے نہ بکری۔ جو اس بات کا کنایہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔

۲۔ عَفَطَ ـِ عَفْطًا فلانٌ بكلامہ: لکنت کرنا۔ العَفَّاط والعِفَاطِيّ والعِفْطِي: ہکلا، لکنت والا۔

۳۔ الأعْفَط: احمق۔

عفق: ۱۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا الرجلُ: غائب ہونا، جلدی سے چلا جانا۔ اِنْعَفَقَ في حاجتہ: اپنے کام میں جلدی کرنا۔

۲۔ عَفَقَ ــ عَفْقًا الرجلُ: بلا ضرورت، آتے جاتے رہنا۔ تھوڑا سو کر جاگ اٹھنا پھر سو جانا۔ عَافَقَ مُعَافَقَۃً وعِفَاقًا ہُ: کو فریب دینا۔ ــــ الذئبُ الغنمَ: بھیڑیے کا آتے جاتے بکریوں کو نقصان پہنچانا۔ أعْفَقَ: بلا ضرورت اکثر آتے جاتے رہنا۔ رجُلٌ مِعْفَاقُ الزيارۃ: بہت ملاقاتیں کرنے والا۔

۳۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا ہُ عن الامر: کو سے روکنا، موڑنا۔ ــــ عليہ الصيدَ: کی جانب ہانک کر لانا شکار کو۔ عَفَقَ الغنمَ بعضها عن بعض: بکریوں کو ایک دوسرے کے راستہ سے ہٹانا۔ اِعْتَفَقَ الاسدُ فريستہ: شیر کا شکار کی طرف لپکنا۔ المُنْعَفِق: پانی پر سے واپس ہونے والا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۴۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا ؤ بالسوط: کوکوڑے سے بہت مارنا۔ ـَت الریحُ الشیَٔ: ہوا کا کسی چیز حرکت دینا، ہلانا۔ اِعْتَفَقَ القومُ بالسیوف: تلوار بازی کرنا۔

۵۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا الحمارُ: گدھے کا گوز مارنا۔ العَفَّاقَة: دبر۔

۶۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا الشیَٔ: کو جمع کرنا۔ تَعَفَّقَ به: کی پناہ لینا، کے پاس پناہ لینا۔

۷۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا العملَ: کام کو ادھورا کرنا۔

عفك: عَفَكَ ـِ عَفْكًا الکلامَ: سیدھی طرح بات نہ کرنا۔ عَفِكَ ـَ عَفَكًا و عَفْكًا: بہت بیوقوف ہونا۔ صفت أعْفَك و عَفِك و عَفِيك م عَفْكاء جمع عُفْك۔ الاَعْفَك: بائیں ہاتھ سے کام کرنیوالا۔

عفن ۱۔ عَفَنَ ـِ عَفْنًا اللحمَ: گوشت کو بدبودار کرنا۔ عَفِنَ ـَ عَفَنًا و عفونةً و تَعَفَّنَ الشیُٔ: تری کی وجہ سے خراب ہونا۔ ـــ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت عَفِن و مَعْفُون و مُعَفّن و مُتَعَفِّن۔ عَفَّنَ اللحمَ: گوشت کو بدبودار کرنا۔ عام لوگ عَفَّنَ لازم استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ عَفَّنَ الطعامُ: یعنی کھانا خراب ہوگیا اور بدبودار ہوگیا۔ اَعْفَنَ الشیَٔ: کو بدبودار پانا۔ العَفَن و العُفُونة: سڑاند۔ الامراض العفِنة: مفسد خون بیماریاں جو متعدی ہوتی ہیں۔

۲۔ عَفَنَ ـِ عَفْنًا فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔

○ عَفِنَ ـَ عَفَنًا و عفونةً: گلنا، سڑنا، گلا سڑا ہونا، بگڑنا، خراب ہونا، پھپھوندی والا ہونا، پھپوندی لگا ہونا۔ تَعَفَّنَ بمعنی عَفِن ـ عَفِن: گلا سڑا، خراب، پھپھوندی والا، خراب، جراثیم زدہ۔ مفسد خون، بدبودار، متعفن، عفونت دار۔ عَفَن و عُفُونَة و تَعَفُّن: گلا سڑا ہونا، خرابی، بگاڑ، بوسیدگی۔ مُعَفَّن و مُتَعَفِّن بمعنی عَفِن۔

عفا ۱۔ عَفَا ـُ عَفْوًا عنه وله ذَنْبَهُ و عفا عن ذَنْبِهٖ: کو معاف کردینا، سزا نہ دینا۔ ـــ اللّٰه عنه: اللہ تعالیٰ کا گناہوں کو معاف کرنا۔ ـ عن الشیٔ: سے رکنا۔ ـ عن الحق: حق ساقط کرنا۔ ـ الصوفَ: اون کاٹنا۔ ـت الریحُ الاثرَ او المنزل: ہوا کا نشان یا رکنے کی جگہ کو مٹا دینا۔ ـــ عَفْوًا و عَفَاءً و عُفُوًّا الاثرُ او المنزلُ: نشان یا رکنے کی جگہ کا مٹ جانا۔ ـ اثرُ فلان: ہلاک ہونا، مرنا۔ عَفّی ت الریحُ المنزلَ: ہوا کا رکنے کی جگہ کو مٹا دینا۔ ـــ ت العِلّةُ صَاحِبَها: بیماری کا مریض کو ہلاک کرنا۔ ـــ علی ماکان منه: کی بگڑنے کے بعد اصلاح کرنا۔ عَافَی مُعَافَاةً و عِفَاءً و عَافِيَةً اللّٰه فلانًا: اللہ تعالیٰ کا فلاں کو صحت دینا، بلا اور برائی سے بچانا۔ أَعْفَی إعفَاءً اللّٰهُ فلانا: اللہ کا فلاں کو عافیت دینا۔ ـ المریضُ: بیمار کا تندرست ہوجانا۔ ـــ ہُ من الامر: کو کسی بات سے بری کردینا۔ ـ زیدًا بحقّه: زید کے حق کو پورے طور پرادا کردینا۔ تَعَفَّی تَعَفِّیًا: مٹنا اور مضمحل ہونا۔ تَعَافَی تعَافِیًا: عافیت پانا۔ الشیَٔ: چیز کو چھوڑ دینا۔ اِعْتَفَی تِ الابلُ الیبیسَ: اونٹوں کا اوپر اوپر سے خشک گھاس کا چرنا۔ اِسْتَعْفَی ت الابلُ الیبیسَ: اونٹوں کا اوپر اوپر سے گھاس چرنا۔ الرجُلُ مُكَلِّفَهُ: مکلف سے معافی چاہنا، کہتے ہیں۔ استَعْفَی من الخروج فَأعْفَاهُ: سے درخواست کرنا کہ وہ اسے چھوڑ دے اور یہ درخواست قبول کرلینا۔ العَفَاء (مص): مٹی، بارش، گھروں کی بربادی ہلاکت، العَفْو (مص): زمین جس میں کوئی نشان نہ ہو۔ العَافِی (فا) جمع عُفّی: مٹنے والا، معاف کرنے والا۔ درگزر کرنے والا۔ العَافِية (مص) یا عَافِی کا اسم جمع عَافِيات و عَوَاف: کامل صحت۔ العَفُوّ: معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا (مفعول بمعنی فاعل) کہتے ہیں۔ رجُلٌ عَفُوٌّ عن الذَنب: بہت معاف کرنے والا مرد۔ العَفُوَة: دیت۔ خون بہا۔

۲۔ عَفَا ـُ عَفْوًا الشیَٔ: کو زیادہ کرنا۔ ـــ علیه فی العلم: سے علم میں بڑھ جانا۔ ـ الشیُٔ: زیادہ اور لمبی ہونا۔ ـ ت الارضُ: زمین کا سبزی سے ڈھک جانا۔ ـــ وعَفَی یَعْفِی عَفْیًا الشَعَرَ: بالوں کو چھوڑ دینا تا کہ وہ لمبے اور گھنے ہوجائیں۔ اَعْفَی إعْفَاءً الشَعَرَ: بالوں کو چھوڑ دینا تا کہ وہ لمبے اور گھنے ہوجائیں۔ کہتے ہیں۔ احفوا الشوارِبَ و أعفوا اللحَی: مونچھیں مونڈ ڈالو اور داڑھیوں کو گھنا اور لمبا ہونے کے لئے چھوڑ دو۔ ـــ الرجُل: بہت مالدار ہونا۔ :العِفاء: زیادہ لمبے بال۔ شتر مرغ کے پر، جب وہ بہت ہوں۔ اونٹ کے بال۔ العَافِی جمع عُفّی: لمبے بالوں والا۔ العِفْوَة و العُفْوَة: مرد کے سر کے بال۔

۳۔ عَفَا ـُ عَفْوًا فلانًا: کسی کے پاس طلب معروف کے لئے آنا۔ اَعْفَی اعفاءً الرجُلَ: کو دینا، عطا کرنا۔ ـ الرجُلُ: زائد مال کو خرچ کردینا۔ اِعْتَفَی اِعْتِفَاءً و فلانًا: کے پاس طلب معروف کیلئے آنا۔ العَافِی جمع عُفَاة و عُفِیّ و عافِيَة: ہر طالب بخشش یا رزق۔ کہتے ہیں۔ کثرت علی الکریم عافیتهُ (سخی پر بخشش طلب کرنے والوں کی کثرت ہوگئی۔) دیگ کا نچلا شوربا، گھاس پانی طلب کرنے والا۔ گھاٹ پر اترنے والا مہمان۔ العَافِيَة جمع عَافِيات و عَوَافٍ: ہر رزق طلب کرنے والا۔ العَفْوُ (مص) فضل و معروف۔ عمدہ چیز۔ ـــ من المال: خرچ سے زیادہ مال جس کا دینا اس کے مال کے لئے دشوار نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ اَعْطَیْتُهُ عَفْوًا: میں نے اسے بغیر سوال کئے دیا۔ فَعَلَهُ عَفْوًا یعنی اس نے وہ کام اپنے آپ کیا، بیساختہ کیا۔ العَفْوَة و العُفْوَة: ہانڈی کا جھاگ۔ العِفْوَة: ہانڈی کا جھاگ۔ عِفْوَةُ الشیٔ: چیز کا خالص۔ عِفْوَةُ الطعام و الشراب: عمدہ کھانا و پانی العُفَاوَة: دیگ کا نچلا شوربا، ہانڈی، ہانڈی کا جھاگ۔ العِفَاوَة: یخنی۔ شوربے کا اچھا حصہ جو کسی معزز کو دیا جائے۔ ـــ والعَفَاوة: ہانڈی کا جھاگ۔ العَفْوِیّة: بیساختہ کام۔ رضاکارانہ کام۔ المُعَفِّی: ساتھی جو کسی صلہ کا طالب نہ ہو۔

۴۔ العَفَاء: آنکھ کا پھولا۔ العَفَا و العَفْو و العِفْو و العُفْو جمع عِفَاو عَفْوَة (ح): گدھے کا بچہ۔ العَفْوَة جمع عَفْو (ح): گدھے کا مادہ بچہ۔

○ عفا ـُ عَفْوًا و عَفَاءً: مٹنا، مٹ جانا، محو ہونا، کا نام و نشان مٹنا، دھوڑالا ہوا ہوجانا، نظر انداز کیا جانا۔ عَفَا ـُ عَفْوًا ہ / عن: کو مٹا دینا، محو کردینا، کا نام ونشان مٹا دینا، کو دھوڑ النا، کو خارج کردینا۔ ـــ عن: کو معاف کر دینا۔ ـــ ل عن: کو سے معاف کرنا، آزاد کرنا، کو سے چھٹی دینا، کو سے مستثنیٰ کرنا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، اجتناب کرنا، احتراز کرنا۔ عَفّی ہ / علی: کو مٹا دینا، محو کردینا، دھوڑ النا، کو خارج کردینا۔ عَافَا و اَعْفَاہ: کو صحت دینا، کو صحت یاب کرنا۔ کو تندرست کرنا۔ ـــ ہ من / عن: کی سے حفاظت کرنا، کو سے محفوظ رکھنا، کو سے بچانا کو سے مستثنیٰ کرنا، آزاد کرنا، کو سے نجات دینا۔ ـــ ہ من / عن: کو سے معافی دینا، اَعْفَی ہ: کو برخاست کرنا، سبکدوش کرنا، معزول کرنا، تخت سے اتارنا۔ تَعَافَی: صحت یاب ہونا۔ اِعْتَفَی ہ: کچھ لینے کے لئے کے پاس جانا۔ اِسْتَعْفَی ہ: سے معذرت خواہ ہونا، سے معافی طلب کرنا، سے درخواست کرنا کہ وہ اسے کسی بات سے مستثنیٰ قرار دے۔ (صلہ من)۔ ـــ من: سے استعفاء دینا، سے مستعفی ہونا۔ عفو: مٹانا، محو کرنا، خارج کرنا، معافی، سزا کی معافی۔ ـ عن: کیلئے عام معافی۔ عنایت، مہربانی، کرم فرمائی، نوازش، کرم، پاسداری۔ عفوًا: میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے معاف کیجئے۔ (آپ کا شکریہ کے جواب میں) بڑے شوق سے، اس کا ذکر نہ کریں۔ اپنے آپ، خود بخود، بے ساختہ، اتفاقًا، یونہی، کسی منصوبہ کے بغیر، بر سبیل تذکرہ ضمنًا، عفو عام (عن کے لئے): عام معافی) حق العفو عن العقوبة: معاف کرنے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کاحق۔ عَفوَ الخاطِر : بیساختہ، بلاجھجک، اتفاقاً۔ عفو جمع عِفا: نوجوان گدھا۔ عَفوِی: آپ سے آپ، اپنے آپ، خودبخود، بیساختہ، عَفِی: مضبوط، طاقت ور، ہٹا کٹا، قوی، عَفَاء: مٹانا یا مٹنا، محو کرنا یا ہونا، ناپید ہو جانا، تباہی، خاتمہ، زوال، سقوط، دھول، گرد، غبار، گردوغبار۔ أَدرَکَہُ العفاء: یہ رائج نہیں رہی۔ علیہ العفاءَ: وہ برباد ہو چکا، وہ لٹ گیا۔ مُعَافَاۃ: استثنیٰ، عذر، معذرت، اعتذار، اسقاط قرض۔ اِعفاء: (فیس وغیرہ سے)، استثناء، عذر، معذرت، اعتذار، اسقاط قرض، سزا سے معافی، برخاستگی، سبکدوشی، معزولی (کسی عہدہ سے) اِستعفاءٌ: معافی کی درخواست، عذر، معذرت، اعتذار۔ ـ من: سے استعفاء۔ عافٍ: مٹا ہوا۔ محو شدہ، دھویا ہوا، خارج کیا ہوا۔ عَافِیَۃٌ: اچھی صحت، صحت، بہبود، خوشحالی۔ طاقت۔ کس بل، دم خم، مُعَافًی مِن: سے مستثنیٰ، سے آزاد، سے معافی دیا گیا۔ صحت مند تندرست۔

عق ا۔ عَقَّ ـُ عَقًّا الثوبَ: کپڑا اپھاڑنا۔ ـ ت الریحُ المزنَ: ہوا کا بارش برسانا۔ ـــ ت الدلوُ: ڈول کا کنویں سے بھرا ہوا نکلنا۔ عُقُوقًا و مَعَقَّۃً الولدُ والدَہ: لڑکے کا اپنے والد کی نافرمانی کرنا، شفقت اور اچھا سلوک کرنا چھوڑ دینا، اور اسے کوئی اہمیت نہ دینا۔ صفت عَقّ و عَاقّ جمع عَقَقَۃ و اَعِقَّۃ و اَعَقُّ و عُقَق و عُقُق۔ عَاقَّ مُعَاقَّۃً اباہ: اپنے والد کی مخالفت کرنا۔ اَعَقَّ فلانٌ: نافرمانی کرنا۔ الکَرمُ: انگور کی بیل کی جڑوں سے شاخ نکلنا۔ انعَقَّ: پھٹنا۔ ـ الوادی: وادی کا گہرا ہونا۔ الغبارُ: غبار بلند ہونا۔ ـ البرقُ: بجلی کا بادل میں چھپ جانا۔ اِعتَقَّ: پھٹنا۔ ـ السیفَ: تلوار سونتنا۔ العَاقّ جمع عَاقُّون و عَقَقَۃ و اَعِقَّۃ م عَاقَۃ جمع عَوَاقّ و عاقات: اسم فاعل۔ العِقَّۃ جمع عِقَق: نوزائیدہ بچے کے بال۔ العَقِیق: نوزائدہ بچے کے بال۔ ـ جمع اَعِقَّۃ: وادی اور ہر پانی بہنے کی جگہ جس کو سیلاب نے وسیع کر دیا ہو۔ کہتے ہیں۔ سَالَ العَقِیقُ: اس معنی میں ہے کہ پانی وادی میں بہا یا پانی ندی (نالہ) میں بہا۔ العَقِیقَۃ: نوزائدہ بچے کے بال۔ دریا۔ وہ بکرا یا بکری جو پیدائش کے ساتویں دن بعد بال مونڈتے وقت ذبح کی جائے۔ عِقّان الکرم او النخیل: وہ شاخیں جو انگور کی بیل یا کھجور کے درخت کی جڑوں سے نکلیں۔

۲۔ عَقَّ ـَ عَقَقًا و عَقَاقًا و عِقَاقًا ت الفرسُ: گھوڑی کا حاملہ ہونا صفت عَقُوق العَقُوق من الخیل جمع عُقُق و جج عِقَاق: حاملہ گھوڑی یا غیر حاملہ گھوڑی۔ اَعَقَّ ت الفرسُ: گھوڑی کا حاملہ ہونا۔ صفت: عَقُوق۔

۳۔ اِنعَقَّ ت العقدۃُ: گرہ کا مضبوط ہونا۔

۴۔ اِعتَقَّ المُعتَذِرُ: معذرت خواہ کا عذر کے بیان میں مبالغہ کرنا۔

۵۔ العَقّ و العَقَّۃ من الماء: کڑوا پانی۔ العَقِیق (واحد عقیقۃ): سرخ مہرے۔ العقیقۃ: توشہ دان۔ تیر جس کو جاہلیت کے زمانہ میں سہم الاعتذار کہتے تھے اور خون کے بدلے کا فیصلہ کرنے کیلئے آسمان کی طرف پھینکتے تھے اگر خون میں لت پت واپس آتا تو قصاص لیتے اور اگر صاف آتا تو داڑھیوں پر ہاتھ پھیرتے اور دیت پر مصالحت کر لیتے تھے۔ داڑھیوں پر ہاتھ پھیرنا مصالحت کی علامت تھی۔

۶۔ عَقعَق عَقعَقَۃً الطائرُ بصوتہ: پرندے کا کنکری کرنا۔ العَقعَق (ح): کوے کی شکل کا ایک پرندہ۔ کوا۔ عام لوگ اسے قَعق کہتے ہیں۔ اہل عرب اس سے بدفالی لیتے ہیں۔

○ عَقَّ ـُ عَقًّا ہ: کو پھاڑنا، دو ٹکڑے کرنا۔ زور سے چیرنا، توڑ دینا، کے ٹکڑے کر دینا۔ عَقَّ ـُ عُقُوقًا والدہ او اباہُ: لڑکے کا اپنے والد کی نافرمانی کرنا، عَقّ: اپنے والد کا نافرمان، عزت نہ کرنے والا، اپنے فرائض ادا نہ کرنے والا اور سرکش لڑکا۔ عَقِیق: اسم جنس واحد عَقِیقَۃ: جمع عقائق: عقیق جمع اَعِقَّۃ: کھڈ، تنگ گھاٹی، گہری گھاٹی۔ عَقُوق: نافرمانی، سرکشی (لڑکے کی) اَعَقّ: زیادہ غیر مودّب، زیادہ گستاخ، زیادہ شرارتی، ما اَعَقَّکَ: تم کتنے بے ادب ہو۔ عاق: نافرمان، بے ادب، گستاخ، فرائض سے کوتاہی کرنے والا اور سرکش (لڑکا)۔

عقب ا۔ عَقَبَ ـِ عَقبًا و عُقُوبًا و عاقبۃً الرجُلَ او مکانَ الرجُل: کا جانشین ہونا، کے پیچھے آنا، کہتے ہیں۔ عَقَبَ الشیبُ: سیاہی کے بعد سپیدی آنا۔ عَقَّبَ ہُ: کے پیچھے آنا، کے پیچھے چلانا۔ ـــ فی الامر: کی بار بار کوشش کرنا۔ الصلاۃ: نماز پوری کرنے کے بعد دعا یا کسی سوال کے لئے بیٹھنا۔ الشیبُ: سیاہی کے بعد سپیدی آنا۔ الحاکمُ علی حُکم سلفہ: حاکم کا اپنے پیش رو کے خلاف فیصلہ کرنا۔ عَقَّب علی کلامہ تعقیبًا: کی بات پر تبصرہ کرنا، پر تنقید کرنا، پر رائے زنی کرنا، پر نقطہ چینی کرنا، پر اعتراض کرنا، کا تنقیدی نظر سے جائزہ لینا، عَاقبَ مُعَاقَبَۃً ہُ: کے پیچھے آنا۔ ـــ ہُ فی الراحلۃ: باری باری سوار ہونا۔ اَعقَبَ ہُ: کا جانشین ہونا۔ ـــ ہُ فی الراحلۃ: باری باری سوار ہونا۔ ـــ فلانٌ: مرنا اور اولاد چھوڑ جانا۔ الرجُلُ: برائی سے خیر کی طرف لوٹ آنا۔ ـ ت الارضُ: زمین کا چرے جانے کے بعد پھر سرسبز ہو جانا۔ کہتے ہیں۔ اُعقِبَ عِزُّہ ذُلًّا: اس کی عزت ذلت سے بدل گئی۔ تعَقَّبَ ہُ: کا تعاقب کرنا۔ کو تلاش کرنا۔ ـ عن الخبر: پر شک کرنا اور دوبارہ اس کے متعلق سوال کرنا، کے متعلق دوسرے شخص سے جس سے اس نے پہلے سوال کیا تھا دریافت کرنا یعنی کے متعلق محتاط اطلاعات لینا۔ تعَاقَبَ الرجلانِ او اللیلُ والنہار: دو آدمیوں یا دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ الرجلان علی الراحلۃ: دو مردوں کا باری باری سوار ہونا۔ ـــ القومُ فی الشیء او الامر: کوئی بات یا کام باری باری کرنا۔ تعاقبوا علی فلان بالضرب: کو مارنے پیٹنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا۔ اِعتَقَبَ القومُ علیہ: میں تعاون کرنا۔ العَاقِب (فا): نائب۔ اچھا، جانشین۔ العَاقِبَۃ جمع عَوَاقِب: عاقب کا مونث۔ نسل۔ العَقب عَقَبَ کا مصدر۔ ہر پیچھے آنے والی چیز۔ ـ العَقِب جمع اَعقَاب: بیٹا، پوتا، کہتے ہیں۔ جاء عَقِبَہُ و بعَقِبِہ: وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ اس کا جانشین ہوا۔ العُقبَۃ جمع عُقَب: باری، نوبت، کہتے ہیں۔ تمَّتْ عُقبَتُکَ: تیری باری پوری ہوگئی۔ بدلا۔ کہتے ہیں: اخذت من اسیری عُقبَۃً: میں نے اپنے قیدی سے بدلا لے لیا۔ کھانے کے بعد تناول کی جانے والی شیرینی، شوربے کا باقی حصہ جو ہانڈی والے کیلئے چھوڑا جائے۔ رات دن (کیونکہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں)۔ العَقُوب: بھلے کاموں میں پیش رو کا پیرو۔ العَقِیب: پیرو، پیچھے آنے والا، کہتے ہیں۔ ھو عَقِیبُہُ: وہ اس کے بعد آنے والا ہے۔ المِعقَاب: ایک بار لڑکا اور دوسری بار لڑکی جننے والی عورت۔ المُعَقِّبَات: دن رات کے فرشتے، باری باری پڑھی جانے والی تسبیحیں۔

۲۔ عَقَبَ ـِ عَقبًا ہ: کو ایڑ مارنا۔ عُقِبَ عَقبًا: کی ایڑی میں درد ہونا۔ العَقب و العَقِب جمع اعقاب: ایڑی کہتے ہیں۔ رجع علی عَقِبِہ: وہ جلدی سے اسی راہ سے واپس چلا گیا جس سے آیا تھا۔ وَطِئَ عَقِبَہُ: وہ اس کے نقش قدم پر چلا۔ سَافَرَ علی عَقِب الشہر: اس نے مہینے کے آخر میں سفر کیا۔ العُقبَۃ من الجَمَال جمع عُقَب: حسن و جمال کا اثر اور ہیئت، کہتے ہیں ھو عُقبَۃُ بنی فلان: وہ بنی فلاں کا زندہ بچ رہنے والا آخری شخص ہے۔ العُقبَۃ من الجمال: حسن و جمال کا اثر اور ہیئت۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۳۔ عَقَبَ ـُ عَقْبًا القوسَ او السهمَ: کمان یا تیر پر پٹھا لپیٹنا۔ العَقَب جمع اَعْقَاب: وہ پٹھا جس سے تانت بنائی جاتی ہے۔

۴۔ عَقَّبَ علیه: کو بدنام کرنا اور اس کی غلطیاں بیان کرنا۔ عَاقَبَ عِقَابًا و مُعَاقَبَةً ہٗ بِذَنْبِهٖ و علی ذَنْبِهٖ: کا اس کی غلطیوں پر مواخذہ کرنا اور اسے سزا دینا۔ اسم عُقُوبَة ہے۔ اَعْقَبَ ہٗ: کو اچھا بدلہ دینا۔ عرب کہتے ہیں۔ اَعْقَبْتُ الرجُلَ: میں نے اس شخص کو اچھا بدلہ دیا۔ عَاقَبْتُهٗ: میں نے اسے برابر بدلہ دیا۔ لهذا عَاقِبَة: اچھا بدلہ دینے اور عِقَاب برابر بدلہ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ الامرُ: کا انجام اچھا ہونا۔ تَعَقَّبَ ہٗ: جرم پر کسی کی گرفت کرنا۔ کے عیوب تلاش کرنا۔ من امرہ: پر نادم ہونا۔ اِعْتَقَبَ من کذا ندامةً: کے انجام میں ندامت اٹھانا۔ اِسْتَعْقَبَ ہٗ: کے عیوب و نقائص کو تلاش کرنا۔ العُقْب و العُقُب جمع اَعْقَاب: انجام، نتیجہ۔ العُقْبَی: ہر چیز کا آخر، آخرت، کام کا بدلہ۔ عُقْبَاكَ: کا معنی ہے العُقْبَی لك: اس سے لوگ شادی کے موقعہ پر مبارکباد دیتے ہوئے شادی کے اچھے انجام کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں۔ العُقُوبَة والعِقَاب و المُعَاقَبَة: سزا، برائی کا بدلہ۔ العاقِبَة جمع عَوَاقِب: ہر چیز کا آخر۔ جزاء، اچھائی کا بدلہ۔ العُقْبَان: عاقبت۔ اَعْقَابُ الأُمُورِ: معاملات کے نتائج، انجام۔ المُعَاقِب (فا): بدلہ لینے والا۔

۵۔ اِعْتَقَبَ البائعُ السلعةَ: قیمت وصول کرنے تک سامان کو خریدار سے روکے رکھنا۔ الرجُلَ: کو قید کرنا۔

۶۔ العَقَبَة جمع عِقَاب و عَقَبَات: پہاڑ کا دشوار راستہ۔ پہاڑ کی چوٹی پر راستہ۔ العُقَاب (فلک): ایک ستارہ، تالاب کی طرف جانے والی پانی کی نالی۔ ٹیلہ، وہ پتھر جس پر ساقی کھڑا ہوتا ہے۔ جمع عِقْبَان و اَعْقُب و جمع عَقَابِین (ح): ایک شکاری پرندہ۔ العُقَیْب (ح): شکاری پرندہ جو چوہوں اور خرگوشوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کو مُرُزّ بھی کہتے ہیں۔ المُعَقِّب: ماہر ہانکنے والا، ڈرائیور، اوڑھنی، بالی۔ الیَعْقُوب جمع یَعَاقِیب (ح): نر چکور (یا زاید ہے)۔

۷۔ العُقْبُول و العُقْبُولة: عَقَابیل کا مفرد ہے۔ سختی، بیماری یا دشمنی کے بقیہ حصے۔ بیماری کے بعد ہونٹوں پر نکلنے والی پھنسیاں۔

○ عَقَبَ ـُ عَقْبًا ہٗ/ ﮬ: کے بعد ہونا، کے پیچھے ہونا یا آنا، کی جگہ کچھ بننا۔ کے بعد آنا، کا جانشین ہونا، ـــ: کے بعد میں آنا، بعد کو ہونا، جاری رہنا۔ عَقَّبَ ہٗ/ ﮬ: کے بعد ہونا، پیچھے ہونا یا آنا، کے بعد آنا، کا جانشین ہونا، کا تعاقب کرنا، کا پیچھا کرنا۔ ـــ علی: کو بے نقاب کرنا، کی اصلیت بتانا، کی حقیقت سے آگاہ کرنا، کو مشتبہ بنانا، کا جائزہ لینا، کی تصحیح کرنا، ترمیم کرنا۔ ـــ علی: کا ناقدانہ جائزہ لینا، پر تبصرہ کرنا، رائے زنی کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا۔ عَقَّبَ آثارہ: کے نقش قدم پر چلنا۔ عَاقَبَ ہٗ: کے ساتھ باری باری کچھ کرنا۔ ـــ ہٗ ب/ علی: کو پر سزا دینا۔ اَعْقَبَ ہٗ/ ﮬ: کے بعد ہونا، کے پیچھے ہونا یا آنا، کی جگہ کچھ بننا، کے بعد آنا، کا جانشین ہونا۔ ـــ: بعد میں آنا، بعد کو ہونا، ـ ﮬ: کا باپ ہونا۔ ـــ: برائی سے نیکی کی طرف رجوع کرنا، اپنی اصلاح کرنا، انجام بخیر ہونا، کامیاب ہونا۔ تَعَقَّبَ ہٗ/ ﮬ: کا تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، تَعَاقَبَ: ایک دوسرے کے بعد آنا، ایک دوسرے کا جانشین ہونا۔ ـــ علی: پر یکے بعد دیگر لپکنا، جھپٹنا، کی طرف تیزی سے بڑھنا، پے در پے حملے کرنا، پر مسلسل عمل کرنا، لگاتار عمل کرنا۔ عَقِب و عَقْب جمع اَعْقَاب: ایڑی، کسی چیز کا آخری حصہ، خاتمہ، بعد میں ہونے والا، پوتا، بچہ، بچے، اولاد و نسل۔ عَقِبَ: کے فوراً بعد، کے بعد۔ جاء عَقِبَهٗ یا جاء بعقبه یا جاء فی عَقِبه: وہ اس کے ساتھ لگا پیچھے پیچھے آیا۔ علی عَقِبِ: کے فوراً بعد۔ رجع (عاد) علی عَقِبَیه جمع رجعوا (عادوا) علی اَعْقَابِهم: وہ جس راہ سے آئے تھے اسی سے واپس ہوگئے۔ ردّہ علی عقِبَیه جمع ردهم علی اَعْقَابِهم: اس نے انہیں ادھر دھکیل دیا جدھر سے آئے تھے۔ ارتد علی عَقِبَیه جمع ارتدوا علی اعقابهم: وہ پسپا ہوگئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ رأساً علی عَقِب: سر پر پاؤں رکھ کر، الٹا، ابتری یا افراتفری میں، بالکل الٹا، اوندھا، درہم برہم، یکسر، بالکل، ظَهْرًا علی عقب: الٹا، اوندھا، درہم برہم، یکسر، بالکل، ابتری یا افراتفری میں۔ فی اعقاب الشهر: مہینہ کے آخر میں اعقاب الصلوات: فرض نمازوں کے بعد ادا کی جانے والی نفلی نماز۔ فی اعقاب اللیلة: رات ختم ہوتے ہی، سویرے سویرے، تڑکا ہوتے ہی، فجر کے وقت۔ عُقْب جمع اعقاب: خاتمہ، آخر، نتیجہ، اثر، مسئلہ، آرام، بقیہ، بچا کھچا، باقی، سرا، کندا، بچا ہوا ٹکڑا، کا نصف ثانی، مُثَنّی۔ عَقَبَة جمع عِقَاب: ڈھلان سڑک یا پگڈنڈی، کھڑی ڈھلان، درہ، پہاڑی سڑک۔ العَقَبَة یا قلعةُ العَقَبَة: عَقَبه (جنوب غربی اردن کی بندرگاہ) جمع عَقَبَات و عِقَاب: رکاوٹ، مشکل۔ وقفَ عَقَبَةً دُونَ: کی راہ میں حائل ہونا کو روکنا۔ عُقَیبَ: بعد [illegible] آنے والا اگلا۔ عقیب ذلك: بعد ازاں، بعد میں، پھر۔ عُقَاب: (عموماً مونث) جمع اَعْقُب و عِقْبَان: چیل Eagle عقاب، شاہین۔ عُقَیْب: ایک چھوٹی چیل، چھوٹا عقاب، شاہین۔ عُقُوبَة جمع عُقُوبَات: سزا، جرمانہ جمع عقوبات: تعزیری اقدامات، کارروائیاں۔ عقوبات اقتصادیه: اقتصادی پابندیاں۔ قانون العقوبات: تعزیری ضابطہ (قانون)۔ عُقُوبی: تعزیری۔ عُقْبَی: انجام، نتیجہ، اثر۔ یَعْقُوب: حضرت یعقوب علیہ السلام جمع یَعَاقِیب: پہاڑی زر تیتر۔ لِحاجةٍ فی نفسِ یعقوب: کسی غیر معلوم وجہ سے، خفیہ محرکات سے۔ تعقیب جمع تعقیبات: تعاقب، تحقیق، تبصرہ، تنقید، (کسی حکم کے خلاف) اپیل۔ دائرة التعقیب: نظر ثانی یا اپیل کورٹ (عدالت) مُعَاقَبَة: سزا دینا، سزا جمع مُعَاقَبَات: (سیاسی) پابندیاں، عِقَاب: سزا دینا، سزا، جرمانہ، عِقَابی: تعزیری۔ عُقَابی: چیل، شاہین، عقاب کا یا سے متعلق۔ تَعَقُّب جمع تعقبات: پیچھا کرنا، تعاقب، تحقیق۔ تَعَاقُب: کے بعد ہونا، آنا، ایکدوسرے کے بعد آنا، جانشینی، سلسلہ، علی تعاقبِ العُصور: صدیوں کے دوران میں۔ علی العَاقِب: لگاتار، مسلسل، پے در پے، عَاقِبَة جمع عَوَاقِب: اخر، نتیجہ، مسئلہ، اثر۔ سلیم العاقبة: ہلکی (بیماری)۔ مُعَاقِب: سزا دینے والا، یکے بعد دیگرے، باری باری، مُتَعَاقِب: لگاتار، پے در پے، مسلسل، متواتر، غیر منقطع

عقد: ا۔ عَقَدَ ـِ عَقْدًا الحبلَ: رسی کو گرہ لگانا۔ البیعَ او الیمینَ: بیع یا قسم کو پختہ کرنا۔ الخیطَ: دھاگے میں گرہ لگانا ـــ البناءَ: معمار کا محراب بنانا۔ البناءَ بالجصّ: عمارت کو چونے سے مضبوط کرنا۔ ـــ ہٗ علی الشیء: سے پر معاہدہ کرنا ـــ له الشیءَ: کوئی ضمانت دینا۔ کہتے ہیں۔ عَقَدَ ناصیتَهٗ: وہ غضبناک ہوا اور برائی کیلئے تیار ہوگیا۔ عَقَدَ عُنُقَهٗ الیه: کے پاس پناہ لینا۔ کہتے ہیں۔ عقد له الرئاسة فی قومه: کو قوم کا رئیس بنا دینا۔ عقد له علی الجیش: کو لشکر کا سردار بنا دینا۔ عَقْدُ الألوِیَةِ لأمراء البحر علی سفنهم: امراء بحر کے جہازوں کو سمندر میں اتارنا جھنڈے لگا کر۔ کہتے ہیں۔ طرّادٌ معقودُ اللواء للامیر ال فلان: فلاں امیر البحر کا (پرچمی) جنگی جہاز۔

عَقِدَ ـَ عَقَدًا: گرہ دار زبان والا ہونا۔ اللسانُ: زبان کا رکنا صفت اَعْقَد و عَقِد عَقَّدَ البیتَ: گھر کے (لئے) محراب بنانا۔ الیمین: قسم کو پختہ کرنا۔ الحبلَ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رسی میں خوب گرہ لگانا۔ ـــ الکلامَ: بات کو مبہم کرنا۔ عَاقَدَ مُعَاقَدَةً: سے معاہدہ کرنا۔ تَعَقَّد السحابُ: بادل کا محراب کی مانند ہونا۔ ـــ الامرُ: دشوار ہونا۔ الاخاءُ: بھائی چارہ کا مضبوط ہونا۔ تَعَاقَد القومُ: ایک دوسرے کیساتھ معاہدہ کرنا۔ إعْتَقَد الاخاءُ بینهما: دونوں کے درمیان سچی محبت اور دوستی ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو باندھنا۔ ـــ الدرَّ ونحوَہ: موتی وغیرہ کے ہار بنانا۔ ـــ الأمَر: کی تصدیق کرنا، پر نہایت پختہ یقین رکھنا، کو دین بنانا۔ إنْعَقَدَ: بندھنا، گرہ لگنا۔ ـ الامرُ لِفلان: کیلئے خالص ہونا۔ العَقْد (مص) جمع اَعْقَاد و عُقُود: محراب العِقْد جمع عُقُود: ہار۔ العُقْدة جمع عُقَد: شہر کی حکومت، حاکموں کی بیعت، بہت درختوں اور گھاس والی جگہ، گرہ۔ ـــ من کل شیءٍ: ہر شئے کی ناگزیریت، مضبوطی اور تصدیق کہتے ہیں: تحلَّلت عُقْدَتُہٗ: اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ العَقَدَة: زبان کی جڑ، العاقِد جمع عَقَدَة فا: کہتے ہیں، جاء عاقِدًا عُنُقَہٗ: وہ غرور سے گردن مروڑتا ہوا آیا۔ العَاقِدة جمع عَواقِد و عاقدات: عاقد کا مؤنث۔ العَقَّاد: بہت عقد کرنے والا۔ دھاگے اور بٹن بنانے اور بیچنے والا۔ العِقَادَة: بٹن اور دھاگے بنانے اور بیچنے کا پیشہ۔ العَقِید: معاہدہ کرنے والا۔ عقیدُ العسکر (ا ع): لفٹنٹ کرنل (عراق) کرنل (یو اے آر) جمع عُقَدَار: کہتے ہیں۔ فلانٌ عَقِیدُ الکَرَمَ او اللُؤم: فلاں شخص طبعاً کریم یا لئیم ہے۔ عَقِیدُكَ اللّٰہُ: میں تم سے اللہ کا واسطہ دیکر التجا کرتا ہوں۔ العَقِیدَة جمع عَقَائِد: جس پر پختہ یقین کیا جائے، جس کو انسان دین بنائے اور اس پر اعتقاد رکھے۔ عقیدہ، اعتقاد۔ الاَعْقَدم عَقْدَاء جمع عُقْد: وہ شخص جس کی زبان میں گرہ ہو۔ کتا یا بھیڑیا جس کی دم مڑی ہوئی ہو۔ ہکلا۔ المَعْقِد جمع مَعَاقِد: گرہ باندھنے کی جگہ، جوڑ کہتے ہیں۔ هومنی مَعْقِدَ الإزار: وہ مرتبہ کے لحاظ سے مجھ سے قریب ہے۔ المِعْقَاد: بچوں کے گلے میں ڈالنے کا دھاگا جس میں بلور کے منکے ہوتے ہیں۔ المَعَاقِد: معقد کی جمع۔ وہ منزلیں جہاں بار بار لوٹ کر آئیں۔ المُعْتَقَد: اعتقاد۔

٢- عَقَدَ ـِ عَقْدًا الحاسبُ: حساب لگانا۔ العُقُودُ من الاعداد: دہائیاں جیسے دس، بیس، تیس، ننانوے۔ العُقْدة: رفتار کی اکائی جو ۱۸۵۳ میٹر فی گھنٹہ کے برابر ہے۔ بحری میل، ٹھہری ہوئی موجوں کے مظہر میں حرکت نہ کرنے والا نقطہ۔

٣- عَقَدَ ـِ عَقْدًا الزهرُ: پھول کے اجزاء کا جمع ہو کر پھل بن جانا صفت عَاقِد۔ ـ العسلُ ونحوہ: شہد وغیرہ کا گاڑھا ہونا۔ عَقَّدَ و اَعْقَدَ الدِبْسَ و نَحوَہ: شیرہ وغیرہ کو جوش دے کر گاڑھا کرنا۔ تَعَقَّد الدِبْسُ: شیرہ کا گاڑھا ہونا۔ ـــ الرملُ: ریت کا تہ بتہ ہونا۔ إنْعَقَدَ الدبسُ: شیرہ کا گاڑھا ہونا۔ ـــ الزهرُ: پھول کے اجزاء کا سمٹ کر پھل بن جانا۔ إعْتَقَدَ الشیءُ: سخت ہونا۔ اعتقد النوَی: گٹھلی سخت ہو گئی۔ العِقد و العَقَد (واحد عَقِدة و عَقَدَة) ریت کا تودہ۔ العقید من الدبس: گاڑھا شیرا۔ العُنْقُود و العِنْقَاد (ن): گچھا۔

٤- إعْتَقَد المالَ: مال جمع کرنا۔ العُقْدَة جمع عُقَد: جائیداد، اتنی مقدار، جو آدمی کو کافی ہو۔

٥- العَاقِدات: جادوگرنیاں۔ المُعَقِّد: جادوگر۔

○ عَقَدَ ـِ عَقْدًا ہ: کو گرہ لگانا، کو گرہ دے کر گانٹھنا، جوڑنا، باندھنا، اکٹھا کرنا، (اپنے ہاتھ وغیرہ) باندھنا، (بھویں وغیرہ) سکیڑنا۔ ـــ ہ ب: پر اپنی آنکھیں گاڑنا، جمانا۔ ـ ہ: (عمارت میں) محراب بنانا۔ ـ ہ: (اجلاس یا اجتماع) منعقد کرنا، بلانا، طلب کرنا۔ ـ ہ: ٹھیکہ یا معاہدہ طے کرنا (معاملہ، کاروبار، فروخت) عمل میں لانا، (قرضہ) لینا۔ عَقَدَ امَلاً علی: سے امید وابستہ کرنا۔ عَقَدَ جَبْهَتَہٗ: اپنی بھویں سکیڑنا، تیوڑی چڑھانا۔ عَقَدَ محادثةً: بات چیت، گفتگو شروع کرنا۔ عُقِدَ خِطْبَتُها علی: (لڑکی) کی منگنی سے ہو گئی۔ عَقَدَ الخِنصرَ (الخناصِر) علی: کسی چیز کو سب پر فوقیت دینا۔ عَقَدَ زَوَاجًا: شادی کرنا، عَقَدَ العزم (العزیمة) علی: کا فیصلہ کرنا، ارادہ کرنا، کا پختہ عزم کئے ہونا۔ عَقَدَ لسانَہ: کو خاموش کرنا۔ عُقَد لواء الشیءِ: کی بنیاد رکھنا، کو شروع کرنا، کو وجود میں لانا، کو سمندر میں اتارنا، ہٹانا، تخلیق کرنا، کو روشن کرنا، جلانا، آگ لگانا، السفینة المعقود لها لواء القیادة: پرچمی جہاز۔ البارجة المعقود لواءها للامیرال: امیر البحر کا (پرچمی) جہاز۔ عَقَدَ ناصیتہ بمعنی عقد جبهتہ: عَقَدَ نِطاقًا حولَہ: کے گرد (سپاہیوں کا) گھیرا ڈالنا۔ عَقَدَ النیة علی: کا عزم صمیم کرنا، کا ارادہ کرنا، کا فیصلہ کرنا، عُقِدَلَه لواء المجد (النصر): اس کے سر پر شہرت (یا فتح و نصرت کا) سہرا باندھا گیا۔ عَقَدَ علی المرأة: ایک عورت سے شادی کرنا۔ عَقَّدَ ہ: کو مضبوطی سے گرہ لگانا۔ گانٹھنا، باندھنا، جوڑنا، ـ ہ: (بادلوں کو) تہ بتہ کرنا، کو اکٹھا کرنا۔ ـــ ہ: (بھاپ، بخارات وغیرہ کا) گچھا بنانا ـــ ہ: کو پیچیدہ کرنا، مشکل بنانا، الجھا ہوا کرنا۔ عَقَّدَو اَعْقَدَ ہ: کو گاڑھا کرنا، منجمد کرنا، تَعَقَّد: کو گرہ لگنا، گانٹھا جانا، بندھنا، جڑنا، پیچیدہ ہونا، گاڑھا ہونا، منجمد ہونا، (بادلوں کا) اکٹھا ہونا۔ تَعَقَّد لسانُہ: بڑی مشکل سے اظہار خیال کر سکنا، سخت کوشش کر کے بولنا، بول نہ سکنا، زبان میں تالا سا لگا ہونا، تَعَاقَدَ: باہم گانٹھا ہوا ہونا، باہم جڑا ہوا ہونا، باہم بندھا ہوا ہونا، باہم مربوط ہونا، ٹھیکہ لینا، معاہدہ کرنا، ـــ علی: پر، کے بارے میں اتفاق کرنا، اِنْعَقَدَ: باہم گانٹھا ہوا ہونا، گرہ لگا، گرہوں سے بندھا ہوا ہونا، الجھا اور پھنسا ہوا ہونا، بھنوں کا سکڑنا (زبان کا) رکنا، گاڑھا ہونا، منجمد ہونا، (ٹھیکہ) طے پانا، (بیع) کا عمل میں آنا (کانفرنس کمیٹی وغیرہ کا) منعقد ہونا، جمع ہونا۔

الاجماع مُنْعَقِد علی أن: عام یقین ہے کہ۔ لم ینعقد لہ زهرٌ و لاثمر: پھول اور پھل کے بغیر رہنا، کسی اثر یا نتیجہ کے بغیر ہونا۔ اِعْتَقَد ہ ب: میں کا پختہ یقین رکھنا عَقْد جمع عقود: ٹھیکہ، معاہدہ، انتظام، قانونی عمل، قانونی کاروبار، دستاویز، تحریر، محراب، محراب دار چھت، قوسی چھت، دس کا مجموعہ (دہائی) دس سال کی مدت، دہ سالہ مدت، عقدٌ الْفی: ہزار سال، ہزار سالہ مدت (Millennium) عقدُ الزَوَاج: شادی کرنا، شادی، نکاح نامہ، عقد القران: شادی کرنا، شادی۔ عقد الملکیّة: دستاویز ملکیت (Title dead)۔ اِنْفَرَطَ عقدُهُم: وہ ٹوٹ گئے، انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ عِقد جمع عُقُود: پھولوں کا گجرا، ہار، چمپاکلی۔ واسطةُ العقد: مرکز، نقطہ ماسکہ (focus)، روشن پہلو، اہم کشش، بڑی چیز، اصل بات Piece de resistance عُقْدَة جمع عُقَد: گرہ، گانٹھ، بحری میل، اینچ، جوڑ، گوندھ کر یا ایک دوسرے پر رکھ کر لگایا ہوا جوڑ، گومڑی، سوجن، ورم، آماس، گومڑی، ڈلی، گولی، ابھار، شاخسانہ (Outgrowth) ٹھیکہ، معاہدہ، اقرار، عہد، عہد نامہ، قول و قرار، عہد و پیمان، مسئلہ، مشکل، معما، پہیلی، نفسیاتی الجھن، ذہنی الجھاؤ، عَقّاد: ڈوریاں، طنابیں، پراندے پھندنے، جھالریں، گوٹیں، لیس، فیتہ کناری وغیرہ بنانے اور فروخت کرنے والا، عِقادہ: یہ چیزیں بنا کر فروخت کرنے کا پیشہ۔ عقید: ٹھیکہ لینے والا فریق، ٹھیکیدار، لیفٹیننٹ کرنل (عراق میں) کرنل (متحدہ عرب جمہوریہ میں) عقیدةٌ خرافیة: ضعیف الاعتقادی، اوہام پرستی، توہم، فی عَقِیدتی: میرے پختہ یقین کے مطابق، جیسا کہ میں یقین رکھتا ہوں۔ عَقَائد: نظریاتی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نظام کے متعلق۔ مَعْقدُ اماله: وہ مقصد جس سے وہ اپنی امیدیں وابستہ کئے ہوئے ہے۔ لا یــاخــذ الکری بمعقد جَفنه: کسی نیند نے اس کے پپوٹے بند نہیں کئے۔ اِعْتِقَادی: اذعاپسند (Dogmatic) جمع اِعْتِقَادِیون: اذعاپسند Dogmatists المذهب الاعتقادی: اذعاپسندی (Dogmatism) معقود اللسان: جس کی زبان کو تالا لگا ہوا ہو۔ بول نہ سکنے والا۔ کان الامل معقودا ان: امید تھی کہ ۔ مُعَاقد: ٹھیکہ لینے والا فریق ٹھیکہ دار۔ المتعاقدان: دونوں فریق (ٹھیکہ دینے اور لینے والے)۔ المُعْتَقَد ان: یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ مُعْتَقَد: یقین کیا گیا جمع معتقدات: ایمان کی شق، ایمان کا اصول، عقیدہ، اصول، ایمان، مذہب، مسلک، پختہ یقین، اعتقاد رائے، خیال۔

عقر: ۱۔ عَقَرَ ـِ عَقْرًا هُ: کو زخمی کرنا ذبح کرنا۔ ــ الابلَ: اونٹوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا۔ ــ بالصید: شکار کے پیچھے لگنا، پر حملہ کرنا۔ عقَّر الابل: اونٹوں کو بہت زخمی کرنا۔ عَاقَرَ مُعَاقَرَةً هُ: پر اونٹ ذبح کرنے میں فخر کرنا۔ تَعَقَّر واِعْتَقَرَ ظهرُ الدابة من الرحل او السرج: جانور کی پیٹھ کا کجاوے یا زین سے زخمی ہو جانا۔ تَعَاقَر الراعِيان: دو چرواہوں کا اونٹوں کے ذبح کرنے میں مقابلہ کرنا۔ اِنْعقَر ظهرُ الدابة من الرحل او السرج: کجاوے یا زین سے جانور کی پیٹھ کا زخمی ہو جانا۔ ــت قوائم البعیر: اونٹ کی کونچیں قطع ہو جانا، کٹ جانا۔ العاقور: پیٹھ کو زخمی کر دینے والی زین۔ العُقَر: جانور کو تھکا کر زخمی کرنے والا۔ العُقَرَة بمعنی عُقَر و عاقور۔ العقَّار جمع عَقَاقِیر: بہت زخمی کرنے والا۔ العِقِّیر: مبالغہ کا صیغہ۔ العَقُور جمع عُقُر کاٹنے والا جانور وغیرہ العَقِیر جمع عَقْرَى: زخمی العَقِیرَة: زخمی شکار وغیرہ، کٹی ہوئی پنڈلی۔ نخلةٌ عَقِیرَة: کٹے ہوئے سر کا کھجور کا درخت۔ گانے، رونے یا پڑھنے والے کی آواز، کہتے ہیں: رَفَعَ عَقِیرَته: اس نے اپنی آواز بلند کی۔ المِعْقَر: جانور کو تھکا کر زخمی کرنے والا۔ ــ والمِعْقَار و المُعَقِّر من السروج: پیٹھ زخمی کرنے والی زین۔

۲۔ عَقَرَ ـِ عَقْرًا به: کو چلنے سے روک دینا۔ ـ عَقْرًا و عُقْرًا و عُقَارًا ت المرأةُ او الناقةُ: عورت یا اونٹنی کا بانجھ ہونا۔ صفت عاقر: اسی سے ضرب المثل ہے۔ الحركةُ وَلُودٌ والسكونُ عاقِرٌ: حرکت حاملہ اور سکون بانجھ ہے۔ عَقُرَ ـُ عُقْرًا و عَقَارَةً و عِقارةً ت المرأةُ او الناقةُ: عورت یا اونٹنی کا بانجھ ہونا۔ ـ عُقْرًا الامرُ: بے نتیجہ ہونا، عُقِرَت المرأةُ او الناقةُ: عورت یا اونٹنی کا بانجھ ہونا۔ اَعْقَرَ اللّٰه المرأةَ: اللہ کا کسی عورت کو بانجھ بنانا۔ العُقْر (مص) بے اولاد۔ بیضةُ العُقْر: مرغی کا پہلا انڈہ۔ العَقْرَة والعُقْرَة والعَقَارَة: عدم حمل، بانجھ پن کہتے ہیں: حملت بعد عُقْرة: وہ بانجھ پن یا عدم حمل کے بعد حاملہ ہوئی۔ امراةٌ عُقَرَة: رحم کی بیماری والی عورت۔ العَاقِر جمع عُقَّر وعَوَاقِر: بانجھ عورت، رجُلٌ عَاقِر: بے اولاد مرد۔ رجُلٌ عَقِیر: بے اولاد مرد۔

۳۔ عَقِرَ ـَ عَقَرًا الرجلُ: دہشت زدہ ہونا۔ أَعْقَرَهُ: کو دہشت زدہ کرنا۔ العَقِیر جمع عَقْرَى: دہشت زدہ۔

۴۔ عَاقَرَ مُعَاقَرَةً الشيءَ: کو لازم پکڑنا، کا عادی ہونا۔ ــ الخمرَ: شراب پینے میں مداومت کرنا۔ تَعَقَّر الغیثُ: لگاتار بارش برسانا۔ العُقَار: شراب۔

۵۔ عَاقَرَ مُعَاقَرَةً هُ: سے نفرت کرنا، کو گالی دینا، کی ہجو کرنا۔

۶۔ تَعَقَّر الرجُلُ: زیادہ جائیداد والا ہونا۔ ــ النباتُ: نباتات کا لمبی ہونا۔ العَقْر: گھر کا درمیانی حصہ، محلّہ، اونچی عمارت، مکان۔ العُقْر جمع اَعْقار: محلّہ، گھر کا درمیانی حصہ، گھر کی سب سے خوبصورت جگہ۔ بہترین گھاس، قصیدے کا بہترین شعر، محل، جہیز العَقَار جمع عَقَارات: گھر کا سامان، زمین (جائیداد) ہر وہ چیز جس کی اصل اور استحکام ہو جیسے، زمین، گھر۔ العُقَار: گھر کا سامان، بہترین مال اور گھاس۔ العَقَّار جمع عَقَاقِیر: درخت، العُقْرَى: زمین (جائیداد)۔ العِقِّیر: درخت۔ المُعْقِر: بہت جائیداد والا۔

۷۔ تَعَقَّرَ شحمُ الناقة: اونٹنی کی چربی کا گھٹا ہوا ہونا۔

۸۔ العَقْر: دو چیزوں کے درمیان کی کشادگی۔ العُقْر جمع اَعْقَار: تالاب کا پچھلا حصہ یا تالاب کا وہ مقام جہاں پینے والا کھڑا ہو۔ ــو العُقْر: بڑی آگ۔ العَقَار جمع عَقَارات: لال رنگ۔ العَقَّار جمع عَقَاقِیر: جڑی بوٹیاں، مطلق دوا۔ الاَعْقَر م عَقْراء جمع عُقْر: وہ اونٹ جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں۔ العَقْرَاء: اَعْقَر کا مونث۔ ریت کا ٹیلہ۔ ارضٌ مَعْقَرَة: بہت بچھوؤں والی سرزمین۔

۹۔ العَقْرَب جمع عَقَارِب (ح): بچھو (مذکر و مونث) اکثر مونث آتا ہے۔ کنیت ام عِرْیَط وامُّ ساهرة ہے۔ مذکر کو عُقْربان بھی کہتے ہیں۔ کبھی مادہ کو عقربہ بھی کہا جاتا ہے۔ [illegible] آسمان کا [illegible] عقربُ الساعة: گھڑی کی سوئی۔ عقربُ الصُدغ: گھنگھریالے بال جو کنپٹیوں پر عورتیں لٹکاتی ہیں۔ العقارب: سختیاں، چغلیاں، کہتے ہیں: دَبَّتْ عقاربُهُ ودَبت منه عقاربُ السعاية و انه لتدبُّ عقاربُهُ: وہ لوگوں کی بے آبروئی کرتا ہے۔ عیشٌ ذُو عَقارب: سختی اور تنگی کی زندگی عَقاربُ الشتاء: ٹھنڈ کی شدت۔ العقْرَباء (ح): مادہ بچھو۔ المُعَقْرَب: موڑا ہوا، ٹیڑھا گھٹا ہوا، مضبوط جسم، کامل مددگار۔ ارضٌ مُعَقْرَبة: بہت بچھوؤں والی زمین۔

⭘ عَقَرَ ـِ عَقْرًا ہ/ ھ: کو زخمی کرنا۔ عَقُرَ ـُ وعَقَرَ ـِ عُقْرًا و عَقْرًا وعَقَارَةً: بنجر ہونا، بانجھ ہونا، بے اولاد ہونا۔ عَاقَرَہ: کا عادی ہونا۔ اَعْقَرَهُ: کا ہوش اڑا دینا، کو حواس باختہ کرنا، کو مدہوش کرنا، عُقْر و عَقْر: بنجر پن، بانجھپن، درمیان، مرکز، فی عقر الدار: گھر کے ہی اندر۔ فی عقر داره: ان کے اپنے گھر میں فی عقر دیارهم: ملک کے اندر، ان کے اپنے ملک میں، ان کے اپنے میدان میں۔ عُقْر: لونڈی سے ناجائز جنسی تعلق کا ہرجانہ، بے اولاد مرد۔ عَقَار جمع عَقَارات: غیر منقولہ جائیداد، زرعی جائیداد۔ عُقَار: بچا کھچا، بقیہ۔ عَقَاری: غیر منقولہ جائیداد کا یا سے متعلق، غیر منقولہ جائیداد یا زرعی جائیداد پر مشتمل۔ بنك عقاری: غیر منقولہ جائیداد کا بینک۔ زرعی زمین رہن رکھنے والا بینک۔ رهن عقاری: غیر منقولہ جائیداد یا زرعی جائیداد کا رہن۔ زرعی ضمانت۔ القسم العَقَاری: زرعی جائیداد کا بندوبست۔ مِلك عقاری: زرعی جائیداد۔ عَقُور: بھوکا، لالچی کاٹنے والا (جانور)۔ عَقَّار جمع عَقَاقِیر: دواء، کھانے یا لگانے کی دوا، علاج عَقَارة: بنجر پن، بانجھ پن۔ عَقِیرَة: آواز۔ عَاقِر (م): بنجر، بانجھ (عورت)۔ عَقْرب جمع عَقَارِب: بچھو، ڈنک، نیش، کانٹا، خار۔ (گھڑی یا گھنٹے کی) سوئی۔ بالوں کی لٹ، زلف، گیسو، گھنگھریالے بال، زلف پر شکن، گیسوئے تابدار، آسمان کا ایک برج (العقرب)۔ مُعَقْرَب: ٹیڑھا، پیچ دار، موڑ والا، مڑا ہوا، بل دار، گھنگھریالا۔

عقش: عَقَشَ ـُ عَقْشًا العودَ: لکڑی کو موڑنا۔ ــ المال: مال کو جمع کرنا۔

عقص: ۱۔ عَقَصَ ـِ عَقْصًا الشعَرَ: بالوں کی چوٹی بنانا یا ان کو گوندھنا۔ ــ المراةُ شَعَرها: بالوں کا جوڑا بنانا۔ عَقِصَ ـَ عَقَصًا التیسُ: مینڈھے کا پیچھے کو مڑے ہوئے سینگوں والا ہونا۔ ــ الرجلُ: آدمی کا مڑی ہوئی انگلی والا ہونا۔ العَقِص: جمع شدہ ریت جس میں راستہ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نہ ہو۔ العُقصَة من القرن وغیرہ جمع عُقَص: سینگ وغیرہ کی گرہ۔ العِقصَہ جمع عِقَص و عِقَاس والعَقِیصَہ جمع عَقَائِص وعِقاص: بالوں کی چوٹی۔ العِقَاص جمع عُقُص: موباف۔ الأَعْقَص م عَقْصاء جمع عُقْص مڑی ہوئی انگلیوں والا، جس کے دودانت اندر کو ہوں۔ — من التیوس: مینڈھا جس کے سینگ پیچھے کو مڑے ہوئے ہوں۔ المِعْقَص جمع مَعَاقِص: ٹیڑھا تیر۔ المِعْقَاص: مڑے ہوئے سینگ کی بھیڑ، بکری۔

۲۔ عَقِص — عَقَصًا الرجلُ: بخیل ہونا۔ العَقِیص: بخیل۔ الأَعْقَص م عَقْصاء جمع عُقْص: بخیل۔

۳۔ عَقِصَ — عَقَصًا الرجلُ: بدخلق ہونا۔ العَقِص: بدخلق۔

○ عَقَصَ ـِ عَقْصًا ہ: بالوں کو گوندھنا، بالوں کی چوٹی (چٹیا) کرنا۔ عَقِیصَة جمع عَقَائِص وعِقَاص: بالوں کی چوٹی (چٹیا) گندھے ہوئے بال، بالوں کی لٹ، زلف، گیسو۔

عقف: ۱۔ عَقَفَ ـِ عَقْفًا و عَقَّفَ العُودَ ونحوہ: لکڑی کو کنارے سے موڑنا اور ٹیڑھا کرنا صفت مفعولی۔ اَعْقَف و مَعْقُوف۔ تَعَقَّفَ و اِنْعَقَفَ العودُ ونحوہُ: لکڑی وغیرہ کا مڑنا اور ٹیڑھا ہونا، العَقْفَاء اَعقف کا مونث جمع عُقْف: لوہا وغیرہ جس کا کنارہ ٹیڑھا اور مڑا ہوا ہو، مڑے ہوئے سینگوں والی بکری۔ — والعُقَیفَاء (ن): ایک گھاس جسے کھانے سے بکریاں مرجاتی ہیں۔ العُقَاف: ایک بیماری جس سے بکریوں کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوجاتی ہیں۔ ایسی بکری کو عاقف کہتے ہیں۔ جمع عَوَاقِف ہے۔ العُقَّافَة: لکڑی جس کی ایک جانب ٹیڑھی ہو۔ العَقُوف من ضروع البقر: گائے کا تھن جس سے دھار دوہتے وقت سیدھی نہ نکلے۔ شَوْكَة عَقِیفَة: مڑا ہوا کانٹا۔ المَعْقُوف: جسے ٹانگیں ٹیڑھی کرنے والی بیماری ہو شَیْخ مَعْقُوف: ٹیڑھی کمر والا بوڑھا۔

○ عَقْعَق جمع عَقَاعِق: چتلا کوا (magpie)

○ عَقَفَ ـِ عَقْفًا ہ: کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا، عَقَّفَ ہ: بمعنی عَقَفَ — عُقْفَة جمع عُقَفات: پھندا، چھلا، کاج۔ اَعْقَف م عَقْفا: مڑا ہوا، ٹیڑھا، مَعْقِف: سیدھا قوس Square bracket۔ مَعْقُوف: ٹیڑھا، مڑا ہوا، جھکا ہوا، سروں کے نزدیک جھکا ہوا، سائیکل کے ہینڈل کی شکل کی مونچھ، دوہرا۔ معقوفان: سیدھی قوسیں Square brackets۔ مُنْعَقِف: سیدھا قوس Square bracket۔ بین منعقفین: سیدھے قوسین میں۔

عقل: ۱۔ عَقَلَ ـُ عَقْلاً البعیرَ: اونٹ کی ٹانگ اور ران ملا کر رسی سے باندھنا۔ — الدواءُ بطنَہ: دواء کا کسی کو قبض کر دینا۔ — ـِ عَقْلاً و عُقُولاً المصارعُ خصمَہُ: کشتی لڑنے والے کا اپنے مدمقابل کو ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر گرا دینا۔ عَقْلاً و معقولاً الغلامُ: لڑکے کا سمجھ دار ہونا، دانا ہونا، کہتے ہیں ما فعلت مُنذ عَقَلْتُ: میں نے یہ کام اس وقت سے نہیں کیا جب مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ فلانٌ بعد الصبا: اپنی غلطی کو سمجھ لینا۔ — عَقْلاً الشئَ: کو سمجھنا، پر غور و فکر کرنا، صفت عَاقِل جمع عاقلون و عُقَلَاء و عُقَّال مونث عَاقِلَة جمع عاقِلات و عَوَاقِل۔ عَقِلَ — عَقَلاً البعیرُ: اونٹ کا ٹیڑھی ٹانگوں والا ہونا صفت اعقل م عَقْلاء جمع عُقْل۔ عَقَّلَ البعیرَ: اونٹ کی ٹانگ اور ران ملا کر باندھنا۔ الغلامَ: لڑکے کا عقل مند ہونا۔ — الغلامَ: لڑکے کو عقلمند بنانا۔ الرجُلَ عن حاجتہ: آدمی کو اس کی ضرورت کے حصول سے روک دینا۔ عَاقَلَ مُعَاقَلَةً ہ فعَقَلَہُ: کا سمجھ بوجھ میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا۔ اَعْقَلَ ہُ: کو عقل مند پانا۔ تَعَقَّلَ ہُ: کو روکنا۔ — الرِجْلَ: پاؤں موڑ کر سرین پر رکھنا۔ — الرحْلَ او السرجَ: کجاوہ یا زین پر پاؤں موڑ کر رکھنا۔ — الغلامُ: لڑکے کا سمجھ دار ہونا۔ عقلمند بننا۔ تَعَاقَلَ: اپنے آپ کو عقلمند ظاہر کرنا۔ اِعْتَقَلَ ہُ: کو قید کرنا، کوئی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر پچھاڑ دینا۔ — الرمُحَ: نیزہ کو رکاب اور پنڈلی کے درمیان رکھنا۔ — البعیرَ: اونٹ کی ٹانگ اور ران ملا کر باندھنا۔ — الرَحْلَ او السرجَ: کجاوہ یا زین پر پاؤں موڑ کر رکھنا۔ — الرِجْلَ: پاؤں موڑ کر سرین پر رکھنا۔ الشاةَ: بکری کی ٹانگ کو اپنی ٹانگ اور ران کے درمیان دبا کر دوہنا۔ — الدواءُ بطنَہُ: دوا کا کسی کو قبض کر دینا۔ اُعْتُقِلَ لسانُہُ: زبان کا بند ہو جانا۔ بول نہ سکنا۔ العَقْل (مص) جمع عُقُول: روحانی روشنی جس سے غیر محسوسات کا ادراک ہوتا ہے۔ دل۔ العَقْلِیّ: عقل سے منسوب، جس میں باطنی حس کو دخل نہ ہو، عقلیت کا دعویدار۔ العَقْلِیَّة: وحی کے بغیر عقل کو کافی سمجھنے والوں کا مذہب۔ العُقْلَة جمع عُقَل: جس سے باندھا جائے۔ العَقْلَة: زبان کی بندش۔ العِقَال جمع عُقُل: رسی جس سے اونٹ کے زانوں کو باندھا جاتا ہے۔ سر پر باندھنے کی رسی۔ العُقَال (طب): جانوروں کے پاؤں کی بیماری۔ العَاقِل (فا) جمع عُقَلاء و عاقِلون و عُقَّال: سمجھ دار دانا، عورت کو بھی عاقل کہتے ہیں۔ — جمع عُقَّال عند الدروز: دروزیوں کے نزدیک، دین کے اسرار کا واقف، اس کے مقابل میں ان کے نزدیک جاہل ہوتا ہے۔ العَاقِلَة: عاقل کی مونث۔ قوت فہم عَاقِلَةُ الرجُل: پدری رشتہ دار۔ العَقُول: قابض دواء۔ امور کو سمجھنے والا۔ العَقِیل: معقول۔ العَقِیلَة جمع عَقَائِل من النساء: شریف پردہ دار عورت۔ — من الابل: عمدہ اونٹ۔ — من القوم: سردار۔ — من کل شئ: ہر چیز کا عمدہ ترین ٹکڑا۔ عَقِیلَةُ البحر: موتی۔ المَعْقِل جمع مَعَاقِل: اونٹوں کو باندھنے کی جگہ۔ المَعْقُول جمع مَعْقُولات: سمجھا ہوا۔ عقل، کہتے ہیں: مالہ حولٌ ولا مَعْقُول: اس کے پاس نہ تو طاقت ہے نہ عقل۔ عَلِمَ مَعْقُولاً وعَدِم معقولاً: اس نے بات کو جان لیا مگر عقل سے بے بہرہ رہا۔ عِلمُ المعقولات: وہ علم جس میں عقلی چیزوں سے بحث کی جائے۔

۲۔ عَقَلَ ـِ عَقْلاً القتیلَ: مقتول کی دیت دینا، خون بہا دینا۔ — عن فلان: کسی کی طرف سے تاوان یا دیت دینا۔ — لہ دمَ فُلان: مقتول کے بدل قاتل کو قتل کرنے کے مطالبہ کے بجائے خون بہا پر راضی ہو جانا۔ اَعْقَلَ الرجُلُ: پر سال کی زکوٰۃ واجب ہونا۔ تَعَاقَلَ القومُ۔ دمَ القتیل: ادائیگی دیت (خون بہا) میں شرکت کرنا۔ اِعْتَقَلَ من دم فلان: کی دیت لینا۔ العَقْل جمع عُقُول: دیت، خون بہا۔ العِقَال جمع عُقُل وعُقُل: اونٹوں اور بکریوں کی ایک سال کی زکوٰۃ کہتے ہیں: اَدّیتُ عِقَالَ سَنَۃٍ: میں نے ایک سال کی زکاۃ ادا کر دی۔ عِقَالُ المئین: وہ شریف جس کے قید ہونے پر دو سو اونٹوں کو بطور فدیہ دیا جائے۔ العَاقِل جمع عاقِلة: دیت دینے والا۔ المَعْقُلَة جمع مَعَاقِل: دیت، جرمانہ، تاوان، کہتے ہیں: صار دمُہ مَعْقُلَةً علی قومہ: اس کا خون قوم پر تاوان ہو گیا جسے وہ ہر سال ادا کرتی ہے۔

۳۔ عَقَلَ ـُ عَقْلَت المراۃ شَعَرَہا: عورت کا اپنے بالوں میں کنگھا کرنا۔

۴۔ عَقَلَ ـِ عَقْلاً و عُقُولا الوعلُ: بارہ سنگے یا پہاڑی بکرے کا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر محفوظ ہو جانا۔ — الیہ: کی، کے پاس پناہ لینا۔ العَاقِل جمع عاقِلة (ح): پہاڑی بکرا، بارہ سنگا۔ المَعْقِل جمع مَعَاقِل: جائے پناہ، پناہ گاہ، بلند پہاڑ۔

۵۔ العَاقُول جمع عَوَاقِیل: دریا کا بڑا حصہ۔ موج، وادی یا دریا کا موڑ، بے نشان زمین، مبہم معاملات۔

○ عَقَلَ — عَقْلاً البعیرَ: اونٹ کی ٹانگیں ایک ساتھ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

باندھ دینا۔—— ہ: کونظر بند کرنا، پرنگرانی رکھنا، قید کرنا، روکنا، گرفتار کرنا، کوکشتی میں گرا دینا، پچھاڑ دینا۔—— ہ ل: کومقتول کا خون بہا دینا۔ عَـقَـلَ: عقل اور سمجھ کی صلاحیت دویعت کیا جانا، معقول ہونا، سمجھ، عقل، فہم وفراست اور ذہانت رکھنا، ہوش میں ہونا، واقف، آگاہ، باخبر ہونا۔—— ہ: کوسمجھنا، کا ادراک کرنا، عَقَلَ لسانَه: کی زبان بند کردینا، کوساکت کردینا۔ عَقَّلَ ہ: کومعقول یا ہوشمند وزیرک بنانا۔ کوعقل سکھانا۔ تَـعَـقَّـلَ: معقول ہونا، ہوشمند ہونا، زیرک ہونا، عاقل ہونا، مبنی برعقل ہونا، معقول ہونا، عقل کے معیار پر پورا اترنا، ذہین ہونا، سمجھ دار ہونا، معاملہ فہم ہونا، ہوشیار ہونا، عقلمند ہونا،—— ہ: کو پوری طرح سمجھنا، کا ادراک کرنا۔ اِعْـتَـقَلَ ہ: کوگرفتار کرنا، قید کرنا، کونظر بلند کرنا۔—— ہ: کوقرق کرنا، ضبط کرنا، کو باڑے میں بند کرنا، پر قبضہ کرنا۔

عَـقْل: خون بہا، دیت جمع عُـقُول: سمجھ، سوجھ بوجھ، عقل، حس، ہر معقول بات، ہوشمندی، ادراک، فہم، بصیرت، دقت نظر، معقولیت، دل، ذہن نفس، شعور، ذہانت، سمجھ، عقل وفہم فراست، ذہن، دماغ۔ مُخْتَل الـعـقـل: پاگل دیوانہ، آپے سے باہر، سلیم (صحیح) العقل: ہوشمند، اعتدال پسند۔ الـعـقـل الباطن (اللاشعوری او غیر الواعی): تحت شعور، لاشعور، نادانستہ، غیرارادی۔ العقل الشعوری (او الواعی اوالظاھر) تحت الشعوری، نیم شعوری۔ العقل المُمَیِّز: واقف آگاہ، باخبر، عـقـل الکترونی: بجلی کا کمپیوٹر۔ عَقْلِي: معقول مبنی برعقل، عقلیت پرمبنی، دماغی، ذہنی، نفسی، نفسیاتی، عقلی جمع عَـقْـلِـيُّـونَ: دانشمند، دانش ور، صاحب علم و فراست، ذی فہم، عقلیت پسند، العَقْلِيَّات: ذہنی عالم۔ الـمذھب العقلی: عقلیت پسندی۔ الامراض العقلیة: دماغی امراض۔ عَقْلِيَّة: ذہنیت، ذہنی رویہ۔ عُـقْـلَـة جمع عُـقَـل: گرہ، گانٹھ، گومڑی، جوڑ، جوڑ کی ہڈی، داب، ورزشی پینگ، ورزشی جھولا، عِـقَــال جمع عُـقُـل: اونٹ کے پاؤں باندھنے کی ڈوری۔ سرکی پٹی جو اونٹ کے بالوں سے بنی ہوتی ہے اور کـــوفـیــہ کو اپنی جگہ پر رکھتی ہے۔ کوفیة: سرکی چادر کو کہتے ہیں۔ اطلق حرباًمن عِـقالها: جنگ شروع کرنا۔ عَقُول: سمجھ دار، معقول، عقلمند، ہوشمند، زیرک، صاحب فہم وبصیرت، صاحب ادراک، ذہین، سمجھ دار، قبض کی دوا، عَقِيلة جمع عـقائل: بہترین، پسند، بیوی، شریک زندگی۔ السیلة عقیلته: کی بیوی۔ عقائِل الصفات: بہت ہی عمدہ خوبیاں۔

اَعْـقَـل: زیادہ ہوشیار، زیادہ طباع، حاضر جواب، ہونہار، زیادہ ذہین، سمجھدار، مَـعْـقِـل جمع مَـعَـاقِل: پناہگاہ، جائے پناہ، قلعہ، بلند مقام، گڑھی، مضبوط مرکز، گڑھ، مرکز، مشین گن کا پختہ اڈا، زمین دوز جائے پناہ، مستحکم مورچہ مَـعْقُلة جمع مَـعَـاقل: دیت، خون بہا۔ تَـعَقُّل: سمجھ، ادراک، شناخت، فہم، نکتہ رسی، بصیرت، ادراک، شناخت، فہم، نکتہ چینی، بصیرت، ہوشمندی، معاملہ فہمی، تدبیر، عقلمندی۔ بِتَـعَـقُّـلٍ: معقولیت سے، ہوشمندی، ذہانت سے۔ اِعْتِـقَــال: گرفتاری، قید، حراست، نظر بندی، اکڑن، کھچاوٹ، مَـعَـسْـکَرُ الاعْتِقال: مرکز اسیران سیاسی، سیاسی قیدیوں کا کیمپ۔ (Concentration camp) عَاقِل جمع عاقلون و عُـقَـلاء و عُقَّال: سمجھ دار، معقول، عقلمند، ہوشمند، زیرک، ذہین، عقلیت پرمبنی، مبنی برعقل، صاحب فہم وفراست، صاحب ادراک، ہوشیار، ہوشمند، معاملہ فہم مدبر، دانشمند، علم وعقل والا، اپنی ذہنی صلاحیتوں پر مکمل قابض، ہوشمند، اعتدال پسند، عَـاقِلة: چھوٹا قبیلہ (یا خاندان) جو بدوی کے غیر تحریری قانونکی رو سے اپنے ہر رکن کیلئے خون بہا کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ مـعـقـول: معقول، ہوشمندانہ، قابل فہم، بظاہر معقول، منطقی، عقل کے معیار پر پورا اترنے والا، عقل پرمبنی، عقلیت پرمبنی، تشویش مند حس یا حاسہ، ادراک فہم، سمجھ، ذہانت، فہم، فراست، ذہن، دماغ، نکتہ رسی، بصیرت، معاملہ فہمی، تدبیر، تمیز، عقل، عقل سلیم، سوجھ بوجھ، عام فہم وفراست، غیــر مـعـقـول: ناقابل فہم، احمقانہ، بیہودہ۔ بے تکا، بے محل، لچر۔ مَـعْـقُـولیة: قابل فہم ہونا۔ سمجھ میں آسکنا۔ منطقی، معقولیت پسند یا معقول ذہنیت، منطقیت، معقولیت پسندی، معقول ومناسب ہونا۔ مُعْتَقَل جمع مُعْتَقَلات: سیاسی قیدیوں کا کیمپ، جیل کیمپ، نظر بندی کا کیمپ، قیدیوں کا کیمپ۔

عـقـم: عَقَمَ ـُ عَقْمًا و عُقْمَات المرأة اوالرحمُ: عورت یارحم کا بانجھ ہونا۔—— ـِ عَقْمًا و اَعْقَمَ الله المرأة: اللہ کا کسی عورت کو بانجھ کرنا۔ عَقُمَ ـُ عَقْمًا وعَقِمَ ـَ عَقَمَات المرأة والرحمُ: عورت یا رحم کا بانجھ ہونا، عُـقِمَ عَقْمًا وعُقْمَات المرأة او الرحمُ: عورت یا رحم کا بانجھ ہونا۔—— ت مَفَاصِلُه: جوڑوں کا خشک ہونا۔ عَقَمَ الله المرأةَ: اللہ تعالیٰ کا کسی عورت کو بانجھ کرنا۔—— الشيَّ: کے جراثیم کو مارنا۔ العَقَام: بے اولاد۔ حربٌ عَقَام: سخت لڑائی۔ حربٌ عُقَام: سخت لڑائی۔ داءٌ عُقَام: لاعلاج بیماری۔ یوم عُقَام: سخت [illegible] اُمّ العقیم [illegible] عُقُم

بے اولاد عورت الـرجـلُ العقیم جمع عُـقَـماء و عِقام و عَقْمَى: بے اولاد مرد۔ عقل عَقِمٌ: .. عقل جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ حربٌ عقیمٌ: [illegible] کہتے ہیں۔ الدنیا عَقِیمٌ: دنیا بے برکت ہے۔ العَقِیمَة من الارحام جمع عَقَائِم: بانجھ رحم۔ الـمَعْقُوم من الرجال: بے اولاد مرد۔

۲۔ عَـقِـمَ ـَ عَقَمًا: خاموش ہونا۔ عَقَّمَ ہُ: کوخاموش کرنا۔

۳۔ عَاقَمَ مُعَاقَمَةً ہُ: سے جھگڑنا۔ العَقَام: بدخلق۔

۴۔ اِعْتَـقَمَ الیـه: کے پاس آنا جانا۔—— فی الأمر: میں دخل دینا۔ الـمَعْقِـم: ہڈیوں کا جوڑ [illegible] ہڈیوں کے مہرے۔ جمع مَـعَـاقِم۔ مَعَاقِمُ الخیل: گھوڑے کے جوڑ۔

۵۔ الـعَقْم والعَقْمَة والعِقْمَة: سرخ کپڑا، نقش ونگار کی ایک قسم۔ العُقْمِيّ: خاندانی شرافت والا۔ والعِقْمِيّ من الکلام: پراسرار بات۔

○ عَـقَـمَ ـُ وعَـقُـمَ ـُ عَقْمًا و عُقْما: بانجھ ہونا (عورت کا رحم کا) عَقَمَ ـِ عَقْما ہ: (رحم) کو بانجھ کر دینا۔ عَقَم ہ/ ہ: کو بانجھ کردینا۔—— ہ: کے جراثیم مارڈالنا، کو پاسچر کرنا (پاسچری طریقہ سے صاف کرنا) سے وبائی اثر دور کرنا، کو جراثیم سے پاک کرنا۔ تَـعَقَّم: بانجھ ہونا۔ عَقْـم وعُقْم وعَقَم: بانجھ پن۔ عُقْمَة: بانجھ پن، عقیم جمع عُقْم وعِقام: بانجھ، بے کار، بے ثمر، غیر موثر، بے اثر، غیر پیدا آور، لاحاصل، بے فائدہ، فضول، (کام، کوشش)۔ تعقیم: جراثیم کشی، اتلاف جراثیم، پاسچری (پاسچری طریقہ سے صاف کرنا) (Pasteurization) وبائی اثر دور کرنا اور جراثیم سے پاک کرنا۔ (Disinfection) مُـعَـقِّـم: وبائی اثر دور کرنے والا، جراثیم سے پاک کرنے والا اور ایسے آلات۔ مُـعَـقَّـم: بانجھ بنایا ہوا، پاسچر کیا ہوا، وبائی اثر دور کیا ہوا، جراثیم سے پاک کیا ہوا۔

عقا: ۱۔ عَـقَـا ـُ عَقْوًا و اعْتَقَى اِعْتِقَاءً: کنواں کھودنا اور ایک طرف سے سوت نکالنا۔

۲۔ عَقَا ـُ عَقْوًا العَلَمُ: جھنڈے کا بلند ہونا۔

۳۔ عَـقَـا ـُ عَقْوًا الامرَ: سے نفرت کرنا، سے کراہت کرنا۔

۴۔ عَـقَـا ـُ عَقْوًا فلانًا: کوروکنا۔—— وعَاقَی ہُ: کو سے روکنا۔ اِعْتَقَی الرجُلُ: رکنا۔—— فلانًا: کوروکنا۔

عـقی: ۱۔ عَـقَـی ـِ عَقْیًا الامرَ: کومکروہ جاننا۔ اَعْـقَـی عُقَاءً: کڑوا ہونا۔—— الشیَ: کومکروہ جاننا، ناپسند

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا۔

۲- عَقِيَ ـِ عَقْيًا وعقّى الولدَ: بچے کو گھٹی پلانا۔ العِقْي جمع أعْقاء: نومولود کا پاخانہ۔

۳- عقّى الطائرُ: اونچا اڑنا۔

۴- العَقْوَة جمع عِقاء: گھر کا ارد گرد۔ میدان، محلہ۔ العِقيان: خالص سونا۔

علك: ۱- عَكَّ ـُ عَكًّا اليومُ: دن کا سخت گرم اور حبس والا ہونا۔ ــ ته الحُمّى: کو لگاتار بخار ہونا۔ ــ هُ بالامر او بالقول: کو بار بار کہہ کر تھکا دینا۔ ــ ہ بالحُجّة: کو دلیل سے مغلوب کرنا۔ ــ ہُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ ــ ہُ بشر: کو بار بار نقصان پہنچانا۔ عُكّ: گرمی سے جوش مارنا۔ ــ الرجلُ: کو سخت بخار چڑھنا۔ عَاكَّ هُ عليه: کو پر مائل کرنا۔ العَكّة والعُكّة: جمع عِكاك: گرمی کی شدت اور حبس، تیز بخار، گرم ریت۔ لَيلةٌ عَكّة: سخت گرم رات۔ العِكّة جمع عِكاك و العِكاك: بمعنی عَكّة (حبس کے ساتھ سخت گرمی) العَكِيك جمع عِكاك: حبس کے ساتھ سخت گرمی۔ يومٌ عكيكٌ: سخت گرم دن۔

۲- عَكَّ ـُ عَكًّا الرجلَ: کے حق میں ٹال مٹول کرنا۔ ــ ہ عن حاجته: کو اس کی ضرورت سے باز رکھنا۔

۳- عَكَّ ـُ عَكًّا الكلامَ: بات کی وضاحت کرنا۔

۴- العُكّة جمع عُكَك وعِكاك: گھی کی چھوٹی مشک۔ سَمِنَ الصبيّ حتى صار كالعُكّة: بچہ گھی کی چھوٹی مشک کی مانند موٹا ہو گیا، عوام ولد مُعَكْعِك (گھی کی چھوٹی مشک مانند موٹا بچہ) کہتے ہیں۔

○ عَكَّ ـَ عَكًّا: (دن کا) حبس والا ہونا، گرم مرطوب اور ہمس والا ہونا۔ عَكّ: حبس والا، حابس، گرم مرطوب اور ہمس والا، سخت گرم۔ عَكّة و عَكّاء و عَكّا: عكه (فلسطین کی بندرگاہ) عَكِيك: حبس والا، گرم مرطوب اور ہمس والا اور سخت گرم (دن)۔

عكب: ۱- عَكَبَ ـُ عُكوبًا القِدرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ ــ تِ الابلُ: اونٹوں کا ہجوم کرنا۔ عَكَّبَتِ النارُ: آگ کا دھوئیں والی ہونا۔ تَعَكَّبَتْهُ الهمومُ: پر غموں کا ہجوم کرنا، کو غموں کا گھیر لینا۔ اِعْتَكَبَ الغبارُ: گرد و غبار اٹھنا۔ ــ الغبارَ: گرد و غبار اڑانا۔ ــ المكانُ: جگہ کا غبار والی ہونا۔ ــ تِ الابلُ: اونٹوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور غبار اڑانا۔ المَعاكِب (فا) جمع عُكُوب: بھیڑ۔ انبوہ العَكَب، والعَكُوب والعَاكوب: گرد و غبار۔ العُكاب: گرد و غبار، دھواں، ہانڈی کی بھاپ۔ العُكُوب: گرد و غبار۔

۲- عَكَبَ ـُ عُكوبًا الرجلُ: آدمی کا ٹھہر جانا۔

۳- عَكِبَ ـَ عَكَبًا: پاؤں کی انگلیوں کے قریب ہونے والا ہونا صفت اَعْكَب م عَكْباء جمع عُكْب۔

۴- عَكِبَ ـَ عَكَبًا: موٹے ہونٹ اور جبڑے والا ہونا۔

۵- الاَعْكَب و العِكاب و العُكَب: العنكبوت (مکڑی) کا اسم جمع۔ العَكّوب (ن): ایک خاردار سبزی جس کی گوند زمین سے نکال کر کھائی جاتی ہے (سریانی لفظ)۔

۶- العِكبِر: ایک چیز جس کو شہد کی مکھی پروں پر لگا کر لاتی ہے اور شہد کی جگہ میں ان کو رکھتی ہے۔

۷- عَكْبَشَ ہُ: کو مضبوط باندھنا۔ تَعَكْبَشَ فيه الغُصن: میں ٹہنی کے کانٹے چبھنا۔

عكد: ۱- عَكَدَ ـِ عَكْدًا و اَعْكَدَ اليه: کے پاس پناہ لینا۔ عَكِدَ ـَ عَكَدًا به و اِعْتَكَدَه: کا ساتھ دینا، کے ساتھ لگا رہنا۔ العُكْدة: گوہ کا بل۔

۲- عَكَدَ ـِ عَكْدًا و اَعْكَدَ الامرُ فلانًا: کے لئے کوئی کام وغیرہ ممکن ہونا۔ العُكْدة: طاقت۔

۳- عَكِدَ ـَ عَكَدًا الضبُّ: گوہ کا موٹا ہونا صفت: عَكِد۔ اِسْتَعْكَدَ الضبُّ: گوہ کا موٹا ہونا۔ ــ الماءُ: پانی کا جمع ہونا۔

۴- عَكَدُ الشيء: چیز کا درمیان کہتے ہیں: عَكَدُك هذا الامر: یہ کام تمہارا مطلوب و مقصود ہے۔ العُكْدة: دم کی ہڈی۔ عُكْدة اللسان: زبان کی جڑ۔

عكر: ۱- عَكَرَ ـِ عَكْرًا و عُكورًا عليه: پر حملہ کرنا، پھرنا مڑنا، مائل ہونا۔ کہتے ہیں: عَكَرَ عليه الزمان بخير: زمانہ اس پر خیر و برکت کے ساتھ مائل ہوا۔ اِعْتَكَرَ عليه: پر حملہ کرنا۔ العَكْرة و المَعْكَر: بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنا۔ العَكّارة: بہت حملے کرنے والا۔

۲- عَكِرَ ـَ عَكَرًا الماءُ ونحوه: پانی وغیرہ کا گدلا ہونا۔ صفت عَكِر۔ عَكَّرَ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔ اَعْكَرَ الليلُ: رات کا سخت تاریک ہونا۔ ــ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔ تَعاكَرَ القومُ في الحرب: گھمسان کی جنگ کرنا۔ اِعْتَكَرَ الليلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ ــ المطرُ: سخت بارش برسنا۔ ــ تِ الريحُ: ہوا کا گرد و غبار اڑا لانا۔ ــ القومُ في الحرب: گھمسان کی جنگ کرنا۔ العَكَر: تلوار کا زنگ۔ ــ من كل شيء: تلچھٹ، جیسے مثلاً تیل کی تلچھٹ۔ العَكَرة: اختلاط، التباس، کہتے ہیں: وقعوا في عَكَرة: وہ معاملہ کی گڑ بڑ میں پڑ گئے۔

۳- اَعْكَرَ الرجلُ: اونٹوں کے گلے والا ہونا۔ العَكَرة جمع عَكَر: اونٹوں کا گلہ۔

۴- العِكْر: اصل، جڑ (کہتے ہیں: رجع فلانٌ الى عِكْره: فلاں شخص اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا۔) عادت۔ العَكَرة جمع عَكَر: زبان کی جڑ۔

۵- عِكْرِمُ الليل: رات کی تاریکی۔ عِكْرِمةُ (معرفة) اور العِكْرِمة (ح): کبوتری یا مادہ قمری۔

○ عَكِرَ ـَ عَكَرًا: گدلا، میلا یا کیچڑ والا ہونا یا ہو جانا۔ عَكَّرَ ہ / على: کو نیلا یا گدلا کرنا یا کیچڑ والا کرنا، میں خلل ڈالنا، کو درہم برہم کرنا، میں تلاطم برپا کرنا، (امن) تباہ کرنا۔ عَكَّرَ الصفوَ: امن کی حالت تباہ کرنا، نظام درہم برہم کرنا۔ عَكَّرَ صفوَه و عَكَّرَ عليه الصفو: کی خوشدلی کو مار ڈالنا، کی خوش طبعی کو پامال کر دینا۔ تَعَكَّرَ: گدلا یا میلا یا کیچڑ والا ہو جانا (صورت حال کا) بگڑ جانا، ابتر ہو جانا، خراب ہو جانا، سنگین ہو جانا، بدتر ہو جانا۔ عَكَر: گدلا پن، میلا پن، کیچڑ والا ہونا، تلچھٹ، دُرد، گاد۔ عَكِر: گدلا، میلا، کیچڑ والا، متلاطم، درہم برہم۔ عَكَارة و عِكارة: تلچھٹ، دُرد، گاد۔ تعكير: گدلا کرنا میلا کرنا، کیچڑ والا کرنا، یا ایسا کرنے کا عمل۔ گڑ بڑ، خلل، ہلچل، طلاطم پیدا کرنا، ابتری، پراگندگی، بے ترتیبی۔ مُعَكَّر: گدلا، میلا، کیچڑ والا۔ تلچھٹ دار، متلاطم، درہم برہم۔

عكز: ۱- عَكَزَ ـُ عَكْزًا الرمحَ: نیزہ گاڑنا۔ ــ على عُكّازته: اپنی چھڑی پر ٹیک لگانا، کا سہارا لینا۔ ــ بالشيء: سے راہ پانا۔ عَكَّزَ الرمحَ: نیزے میں پھل لگانا۔ تَعَكَّزَ قوسَهُ: کمان کو سہارا بنانا۔ ــ على عُكّازته: ڈنڈے کو سہارا بنانا۔ العُكّاز و العُكّازة جمع عَكاكيز و عُكّازات: ڈنڈا جس کے نیچے پھل یا سام لگا ہوا، جس پر ٹیک لگائی جائے، پادری کا ڈنڈا۔

۲- عَكِزَ ـَ عَكَزًا: سکڑنا۔ العِكْز: بخیل، کنجوس۔

۳- العِكْز: بدخو۔

○ تَعَكَّزَ على: (لاٹھی وغیرہ پر) ٹیک لگانا۔ عُكّاز و عُكّازة جمع عُكّازات و عَكاكيز: ڈنڈا، سونٹا، لاٹھی، عصاء، چھڑی، بید یا بیساکھی۔

عكس: ۱- عَكَسَ ـِ عَكْسًا الكلامَ و نحوه: بات کو الٹ دینا۔ ــ الشيءَ: کے آخر کو اول کر دینا کو زمین کی طرف جھکا دے کر کھینچنا اور پھینک دینا۔ ــ رأسَ البعير: اونٹ کے سر کو موڑنا۔ ــ البعيرَ: اونٹ کو نکیل لگا کر رسی کو ٹانگ سے باندھ دینا۔ ــ ہُ عن الامر: کو سے ہٹا دینا، پھیر دینا۔ ــ على فلان امرَہ: معاملہ کو اس پر لوٹا دینا۔ ــ تِ المرآةُ صورةَ فلان: آئینہ کا کسی کی شکل کو منعکس کرنا۔ عَاكَسَ مُعاكسةً وعِكاسًا الكلامَ: بات کو پلٹ دینا۔ ــ ہُ: ایک دوسرے کی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پیشانی کو پکڑنا، کی مخالفت کرنا، (عامی زبان میں)۔ تَعَکَّسَ فی مشیته: رینگ کر چلنا۔ تَعَاکَسَ و اِعْتَکَسَ: پلٹ جانا۔ اِنْعَکَسَ: پلٹ جانا، کہتے ہیں۔ اِنعکس النورُ: روشنی پلٹ گئی اور ایک سطح شدہ پر پڑنے کے بعد واپس ہوگئی۔ عِکاسُ البعیر: نکیل کی رسی جو اونٹ کے گھٹنے پر باندھتے ہیں۔ عَکْسُ القضیّة (ھ): دوسرا مسئلہ جسے پہلے مسئلہ کے نتیجہ نے عائد کیا ہو اور اس کا نتیجہ پہلے مسئلہ کا مفروضہ ہو۔ العَکِیس: رسی جس سے اونٹ کو روکتے ہیں۔(ز): درخت کی شاخ جس کو زمین میں دبا دیتے ہیں کہ اس سے درخت نکلے۔

۲۔ عَکَسَ ـِ عَکْسًا الطعامَ: کھانے میں دودھ ملا شوربہ ڈالنا۔ اِعْتَکَسَ: دودھ ملا ہوا شوربہ بنانا۔ العَکِیس: شوربے میں ملایا ہوا دودھ۔

۳۔ عَکِسَ ـَ عَکَسًا: تنگ خو ہونا۔

۴۔ العَکِیسَة: بہت سے اونٹ۔ اندھیری رات۔ العُکَاس (ح): مکڑی (نر)۔

○ عَکَسَ ـِ عَکْسًا ہُ: کو اوندھا کرنا، الٹانا، الٹا کرنا، کو منعکس کرنا، کا آئینہ دار ہونا۔ عَاکَسَ ہ / ھ: کا توڑ کرنا، دفعیہ کرنا، کی مخالفت کرنا، کی تردید کرنا، کے الٹ ہونا، کے برعکس ہونا۔ ـــ ھ: کی راہ میں حائل ہونا، میں مزاحم ہونا۔ ـــ ہ / ھ: کو درہم برہم کرنا، میں خلل ڈالنا، کو تکلیف دینا، زحمت دینا، میں تلاطم پیدا کرنا، کو تباہ کرنا۔ ـــ ہ: کو جان بوجھ کر چھیڑنا، پریشان کرنا، تنگ کرنا، دق کرنا، کے سر ہو جانا، ستانا، زچ کرنا۔ تَعَاکَسَ: اوندھا ہونا، الٹنا، منعکس ہونا۔ انعکس: الٹایا جانا، اوندھا ہونا۔ ـــ علی: پر منتج ہونا۔ ـــ علی / عن: میں یا پر منعکس ہونا۔ عَکْس: الٹا ہونا یا کرنا، واپس آنا، الٹا کرنا، اوندھا کرنا، انعکاس، الٹ، الٹا، بالکل الٹ، بالکل برعکس، پشت، دوسری جانب، عکسَ ذلك اور علی عکس ذلك: کے برعکس، کے برخلاف، کے علی الرغم، کان علی العکس من: کے برعکس ہونا، کے برخلاف ہونا۔ بالعکس: نہیں بلکہ کے الٹ، بالعکس۔ والعکسُ بالعکس: اور یونہی اس کے برعکس بحث المسألة طردًا و عکسًا: اس نے مسئلہ کا تمام پہلوؤں سے مطالعہ کیا۔ عکسی: برعکس، متناقض، متضاد، مخالف، مخالفانہ، برخلاف، ناموافق، نامساعد، غِکیس: داب، کونپل، مُعَاکَسَة جمع مُعَاکسات: خلل، گڑبڑ، ہلچل، چھیڑ چھاڑ، تنگ کرنا، ناک میں دم کرنا، پریشانی، جدوجہد، لڑائی، جنگ۔ مُعَاکَسة الحالة الجویة: موسم کی خرابی۔ اِنعکاس: منعکس ہونا جمع انعکاسات: غیر شعوری فعل۔ انعکاسی: انعکاس سے متعلق، غیر شعوری، اضطراری۔ حرکة انعکاسیة: غیر شعوری یا اضطراری عمل، غیر شعوری فعل۔ عَاکِس: پردہ، لیمپ پوش Lamp shade۔ عکس انداز (Reflector) عَاکِسَة: عکس انداز (Reflector)۔ لیمپ سرپوش۔ مُعَاکِس: الٹا، الٹ، جوابی، الزامی، مخالف، برعکس، شکن، توڑ، مار۔ هَجمةٌ مُعَاکِسة: جوابی حملہ Counter-attack مُتَعَاکِس: مقابل، بالمقابل، الٹ، مخالف، متصادم، باہم دگر آویزاں۔ مُنْعَکِس: منعکس (Reflected) صورة منعکسة: آئینہ میں عکس، منعکس عکس، عکس، غیر شعوری فعل۔ افعال مُنْعَکِسَة: غیر شعوری یا اضطراری اعمال۔

عکش: ۱۔ عَکَشَ ـِ عَکْشًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ صفت فاعلی عَکِش صفت مفعولی مَعْکُوش۔ ـــ الرجُلَ: کو مضبوط باندھنا ـــ علیه: پر حملہ کرنا۔ عَکِشَ ـَ عَکَشًا الشَعَرُ: بالوں کا پیچیدہ اور تہ بتہ ہونا ـــ النبتُ: نباتات کا بہت اور گنجان ہونا۔ تَعَکَّشَ الامرُ: دشوار ہونا۔ الشیءُ: سکڑنا ـــ الشَعَرُ: بالوں کا پیچیدہ اور تہ بتہ ہونا۔ العَکِش من الشَعَر: پیچیدہ اور تہ بتہ بال۔ شَجَرةٌ عَکِشَة: بہت ٹہنیوں والا گنجان درخت العُکَاش والعُکَّاش والعُکَاشَة والعُکَّاشة (ح): مکڑی، مکڑی کا جالا۔

۲۔ العَکِش: بے خیر شخص۔

○ عَکَاشة: بھونڈاپن، بھداپن، پھوہڑپن۔ عُکَاشةُ و عُکَّاشة: مکڑی۔ مکڑی کا جال۔

عکص: عَکَصَ ـِ عَکْصًاہُ عن حاجته: کو اس کی حاجت سے ہٹانا، پھیرنا۔ عَکِصَ ـَ عَکَصًا: بدخلق ہونا۔ صفت عَکِص۔ ـــت الدابةُ: جانور کا سرکشی کرنا۔ تَعَکَّصَ بکذا علیه: پر کا بخل کرنا۔ رملة عَکِصَة: دشوار گزار ریت کا ٹیلہ۔

عکظ: عَکَظَ ـِ عَکْظًاہُ: کو روکنا۔ تَعَکَّظَ علیه الامرُ: پر کام وغیرہ دشوار ہونا۔

۲۔ عَکَظَ ـِ عَکْظًا الشیءَ: کو رگڑنا۔ ـــ الادیمَ: چمڑے کو دباغت کے لئے رگڑنا۔ ـــ ہُ: کو مغلوب کرنا، کے فخر کو رد کرنا۔ ـــ بالشیء: پر فخر کرنا۔ تَعَکَّظَ القومُ: اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ تَعَاکَظَ القومُ: آپس میں مقابلہ کرنا، آپس میں فخر کرنا۔ آپس میں جھگڑا کرنا۔ عُکَاظ: عرب کے ایک بازار کا نام جہاں عربی قبائل جمع ہو[illegible] پڑھا کرتے تھے (مذکر و مونث)

۳۔ عَکَظَ ـِ عَکْظًا و عَکَّظَ ہُ عن حاجته: کو اس کی حاجت سے ہٹانا اور پھیر دینا۔ عَاکَظَ مُعَاکَظَةً ہُ: کو ٹال دینا۔

۴۔ العَکِظ والعَکِیظ: پستہ قد۔

عکف: ۱۔ عَکَفَ ـُ عَکْفًاہُ عن الامر: کو کسی کام سے منع کرنا۔ عَکَّفَ ہُ عن کذا: کو سے روکنا، منع کرنا۔

۲۔ عَکَفَ ـِ عَکْفًا ہ علی الامر: کو کسی چیز پر روکے رکھنا۔ ـــ عَکْفًا و عُکُوفا علی الامر: پر جمے رہنا۔ ـــ القومُ حوله وبه: کے گرداگرد چکر لگانا۔ ـــ وتَعَکَّفَ و اِعْتَکَفَ فی المکان: کسی جگہ میں بند رہنا، ٹھہرنا۔ عَکَّفَ الجوهرَ: کو تہ بتہ رکھنا۔ عاکف مُعَاکَفَةً ہُ: کے ساتھ ساتھ رہنا۔ العَاکِف (فا) جمع عَاکِفُون و عُکَّف و عُکُوف: مقیم۔

۳۔ عَکَّفَ الشَعَرَ: بالوں کو گھنگریالے کرنا۔ العَکِف من الشَعَر: گھنگریالے بال۔ شَعَرٌ مَعْکُوف: کنگھی چوٹی کئے ہوئے بال المُعَکَّف (مفع): مڑا ہوا، ٹیڑھا۔

○ عَکَفَ ـُ عَکُوفًا علی: سے وابستہ رہنا، پر جمے رہنا، سے لگا رہنا، چمٹنا، لپٹنا، اپنے آپ کو کی نذر کرنا۔ کیلئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا، کا عادی ہونا، کو دل کھول کر یا جی بھر کے کرنا، کو اپنے اوپر طاری کئے ہونا، پر تلا ہونا، میں مشغول ہونا، اپنے آپ کو میں مشغول رکھنا۔ ـــ فی: میں تنہا رہنا۔ عَکَفَ ـِ عَکْفًا ہ عن: کو سے روکنا، منع کرنا۔ عَکَّفَ ہ عن: کو سے روکنا۔ تَعَکَّفَ ھ: میں تنہا رہنا (عن سے)۔ اِعْتَکَفَ بمعنی تَعَکَّفَ: نیز اِعْتَکَفَ الی: اپنے آپ کو کی نذر کرنا، کیلئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، اپنے آپ کو میں مشغول رکھنا۔ عَاکِف جمع عَاکِفُون و عُکُوف و عُکَّف علی: کا عادی، کو اپنے اوپر طاری یا مسلط کئے ہوئے، پر آمادہ، تلا ہوا، میں از حد مشغول۔

عَکل: ۱۔ عَکَلَ ـِ عَکْلًا الشیءَ: کو بکھرنے کے بعد اکٹھا کرنا۔ ـــ المتاعَ: سامان تہ بتہ رکھنا۔ ـــ البعیرَ: اونٹ کو رسی سے بازو اور پاؤں ملا کر باندھنا۔ العِکَال: اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی۔ المِعْکَل جمع مَعَاکِل: چرواہے کی سوٹی جس کو وہ درخت سے بنا لیتا ہے۔

۲۔ عَکَلَ ـُ عَکْلًا الرجُلَ: کو پچھاڑنا۔ ـــ فلانٌ: مرنا۔ اِعْتَکَلَ الثوران: بیلوں کا سینگوں سے لڑنا۔

عَکَلَ ـِ عَکْلًا فی الامر: کی کوشش کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۴- عَکَل ـِ عَکْلاً و اَعْکَلَ و اِعْتَکَلَ علیه الامرُ: پر معاملہ مشکل اور مشتبہ ہونا۔

۵- اِعْتَکَلَ الرجُلُ: جدا ہونا۔

۶- العُکُلُ و العِکل جمع اَعْکَال: لئیم، کمینہ۔ العَاکِل جمع عُکُل: بخیل، پستہ قد۔

عکم: ۱- عَکَمَ ـِ عَکْمًا المتاعَ: سامان کو اکٹھا کر کے کپڑے سے باندھنا، کی گٹھری باندھنا۔ البعیرَ: اونٹ پر باندھنا۔ لارض کذا: کسی خطہ کا ارادہ کرنا۔ عَاکَمَ مُعَاکَمَةً ہٗ علی فلان: کے خلاف کسی کی مدد کرنا۔ اَعْکَمَ ہٗ: کو باندھنے میں مدد دینا۔ اِعْتَکَمَ الشیُٔ: کا ڈھیر لگنا۔ العِکْم جمع اَعْکَام و عُکُوم: بنڈل، گٹھر، بوجھ، کنوئیں کی چرخی، عورتوں کے سامان رکھنے کا بیگ۔ بوری جانور کی پیٹھ پر ایک طرف کا بوجھ

۲- عَکَمَ ـِ عَکْمًا علیه: پر حملہ کرنا۔

۳- عَکَمَ ـِ عَکْمًا ہٗ عن زیارته: کو کسی سے ملنے سے روکنا۔ عُکِمَ عنه: کو ملنے سے باز رکھا جانا۔ العَکُوم: پھرنے کی جگہ، کہتے ہیں۔ ماله عَکُوْمٌ عن کذا: اس کے لئے فلاں چیز سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں۔

۴- عَکَّمَ عَکْمًا الرجلُ: انتظار کرنا۔ ـ عن الامر: سے پیچھے ہٹنا۔

۵- عَکَمَ ـِ ت الابلُ: اونٹوں کا فربہ ہونا۔ المِعْکَم: پر گوشت۔

○ عَکَمَ ـِ عَکْمًا ہ: کا پلندا بنانا، کی گٹھری باندھنا، کو پیک کرنا، کو کپڑے میں باندھنا۔

عکن: تَعَکَّنَ البطنُ: موٹاپے کی وجہ سے پیٹ میں سلوٹیں پڑنا۔ العُکْنَة جمع عُکَن و اعکان: پیٹ کی سلوٹ۔ درعٌ ذات عُکَن: وسیع و کشادہ زرہ۔ العِکَان: گلا۔ العَکْنَاء من النوق او الشاء: موٹے تھن والی اونٹنی یا بکری۔

عکا: ۱- عَکَا ـُ عَکْوًا ذَنَبَ الدابَّة: جانور کی دم کو اس کی جڑ کی طرف موڑنا۔ کہتے ہیں: فرسٌ مَعْکُوٌّ: دم مڑا گھوڑا۔ ـ ہٗ فی الحدید: کو قید کرنا اور باندھنا (ہتھکڑی لگانا)۔ الضبُّ بذَنَبه: گوہ کا اپنی دم موڑنا۔ ـ علی قومه: اپنی قوم کی طرف مائل ہونا۔ ـ ت الابلُ: اونٹوں کا فربہ ہونا۔ ـ بازاره: ازار باندھنے کی جگہ کو سخت کرنا۔ العُکْوَة جمع عُکَا و عِکَاء: جانور کی دم کی جڑ، زبان کی جڑ، ازار کی سخت گانٹھ، ہر چیز کا موٹا اور بڑا حصہ۔ العُکْوَ جمع عُکَا و عِکَاء: بمعنی العَکْوَة: تکلا۔ العَکِیّ من البان الضان: بھیڑوں کا دودھ جو ایک دوسرے پر دوہنے کی وجہ سے گاڑھا ہو گیا ہو۔ الاَعْکَی م عَکْوَاء: سخت دم کی جڑ والا، سخت پہلوؤں والا۔

۲- عَکَا ـُ عَکْوًا الدخانُ: دھواں اوپر چڑھنا۔

عَکِیَ ـِ عَکْیًا: مرجانا۔ ـ بازاره: ازار بند باندھنے کی جگہ کو سخت کرنا۔ ـ بالمکان: کسی جگہ میں قیام کرنا۔ صفت عالٍ جمع عُکَاة۔ عَکَّی: مرجانا۔ ـ الدخان: دھوئیں کا آسمان میں چڑھنا۔ اَعْکَی: مر جانا۔ ـ ہٗ: کو باندھنا۔

علّ: ۱- عَلَّ ـُ ـِ عَلًّا و عَلَلًا و تَعِلَّةً: دوسری بار پینا، لگاتار پینا۔ ـ ہٗ: کو دوسری بار لگاتار پلانا۔ ـ ہٗ ضرباً: کو لگاتار مارنا۔ عَلَّلَ ہٗ: کو بار بار پلانا۔ ـ الثمرةَ: بار بار پھل توڑنا۔ اَعَلَّ الرجُلَ: کو بار بار پلانا یعنی گھونٹ گھونٹ پلانا۔ تَعَالَلَ الصبیُّ ثدیَ اُمِّهِ: بچے کا اپنی ماں کے پستان سے تمام دودھ چوس لینا۔ اِعْتَلَّ الرجُلُ: دوسری بار پینا۔ العَلَّة جمع عَلَّات: سوکن۔ کہتے ہیں: بنو علات: ایک مرد سے چند ماؤوں کے بیٹے، اس کے برعکس کو اولاد (الاخیاف کہتے ہیں)۔ العَلَل (مص): دوسری بار پینا، کہتے ہیں عَلَلٌ بعد نَهَل: پہلی بار پینے کے بعد لگاتار پینا، مراد تھوڑے پر اکتفاء کے بعد پیاس بجھانا۔ العُلَالَة: پہلی بار دودھ دوہنے کی مہلت کے بعد دوہا ہوا دودھ، بقیہ دودھ وغیرہ، نیزہ بازی کے بعد نیزہ بازی اور دوڑ کے بعد دوڑ۔ العَلِیلة جمع عَلِیلَات و عَلَائِل: بار بار خوشبو لگانے والی عورت۔

۲- عُلَّ عِلَّةً: بیمار ہونا۔ عَلَّلَ الکلمةَ: کلمہ کے اعلال کی وجہ بیان کرنا۔ تعلیل کرنا، میں اعلال داخل کرنا۔ ـ ہٗ: کا علاج کرنا۔ ـ ہٗ بکذا: کو میں مشغول کرنا، کو سے پھیرنا، سے کا دل بہلانا۔ ـ المالَ: مال کا بہترین انتظام کرنا۔ اَعَلَّ ہٗ اللّٰہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیمار کرنا۔ ـ الکِلمَةَ: کلمہ میں اعلال داخل کرنا۔ تَعَلَّلَ ت المرأةُ من نفاسها: عورت کا نفاس سے پاک ہونا۔ ـ بکذا: میں مشغول ہونا۔ تَعَالَّ ت المرأةُ من نفاسها: عورت کا نفاس سے پاک ہونا۔ اِعْتَلَّ: بیمار ہونا۔ ـ بالامر: میں مشغول ہونا، کے لیے عذر بیان کرنا۔ ـ عنه: سے بیمار پڑنا۔ : عَلّ بمعنی لَعَلَّ، العَلّ جمع اَعْلَال: بیماری سے سکڑی ہوئی جلد والا، بڑی عمر کا لاغر شخص العَلَّة جمع عَلَّات: بہلاوہ۔ العِلَّة جمع عِلَّات وعِلَل و جمع الجمع اَعْلَال: بیماری، مشغول کرنے والا واقعہ۔ ـ فی العروض: وہ تغیر جو اشعار کے عروض و ضروب میں لازمی پر لاحق ہو۔ سوائے نادر صورتوں کے۔ کہتے ہیں: لایَعْدَمُ مانِعٌ عِلَّةً: یہ اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو عذر کر کے اپنے مال میں کمی اور اسے جوں کا توں چھڑنے کو روک لے۔ العِلَّات: حالات و مختلف کام، کہتے ہیں: جری علی عِلَّاتِه: بہر حال یا باوجود مختلف احوال کے قبول کیا گیا۔ العُلَالَة و التَعِلَّة: بہلاوہ۔ العَلِیل جمع اَعِلَّاء والمُعَلّ والمَعْلُول: مریض، بیمار۔ العلیلة جمع عَلِیلَات و عَلَائِل: علیل کا مونث۔ الاعلال (مص): حرف کو الٹنے، ساکن کرنے یا حذف کرنے سے بدلنا۔

۳- عَلَّلَ الشیَٔ: کی علت بیان کرنا اور دلیل سے ثابت کرنا۔ تَعَلَّلَ: حجت کا اظہار کرنا اور اس پر قائم رہنا۔ العِلَّة جمع عِلَّات و عِلَل و جج اَعْلَال: باعث۔ عِلَّة الشیء: چیز کا سبب۔

۴- اِعْتَلَّ ت الریحُ: ہوا کا نرم ہونا۔ ـ ت الکلمةُ: کلمہ میں حرف علّت ہونا، حرف علت والا ہونا۔ حروف العِلَّة: الف، واو اور یاء۔

۵- اِعْتَلَّ ہٗ: پر کسی جرم کا جھوٹا الزام لگانا۔

۶- العَلّ جمع اَعْلَال: موٹا بکرا، بے خیر شخص۔

۷- الیَعْلُول جمع یَعَالیل: (یاء زائد ہے) سفید حوض، پانی کے بلبلے، سفید بادل یا تہ بتہ بادل۔ بارش کے بعد بارش۔

○ عَلَّ ولَعَلَّ: شاید، ہوسکتا ہے کہ من یدری لعلّ کون جانتا ہے کہ شاید۔ عَلَّ ـِ وعُلَّ: بیمار ہونا یا بیمار پڑ جانا۔ عَلَّل ہ ب: کو میں مشغول رکھنا۔ کیساتھ کی توجہ ہٹانا۔ ـ ہ ب: سے کا جواز پیش کرنا، سے کی توجیہ کرنا، سے کا محرک یا باعث بننا، سے کی وضاحت کرنا، عَلَّلَ نفسَهُ (النفسَ) ب: کی امیدیں جی بھر کے کرنا، امید لگائے رکھنا، کی خواہش زندہ رکھنا، پر امید لگائے رکھنا کہ...... اس خیال کا عادی ہونا کہ عَلَّلَ نفْسَهُ بآمالی: امیدوں سے جی بھر کے مزے لینا، لاحاصل امیدیں لگائے رکھنا، عَلَّل الآمال نب: کی امید لگائے رکھنا۔ عَلَّله بالوعود: کو وعدوں سے ٹالنا۔ تَعَلَّل ب: میں مشغول ہونا، کے ذریعے اپنی توجہ ہٹانا، سے دل بہلانا۔ تَعَلَّل: معذرت کرنا، عذر پیش کرنا۔ تَعَلَّل ب: کا عذر کرنا، کا بہانہ کرنا، کو بطور مصلحت استعمال کرنا، کو بطور عارضی بندوبست استعمال کرنا۔ تَعَلَّل بِعِلَّةٍ: کا بہانہ بنانا، عذر کرنا، کو بطور معذرت کا عذر پیش کرنا، اِعتَلَّ: بیمار ہونا یا پڑ جانا، کمزور و لاغر ہونا، ناقص ہونا، معذرت کرنا، عذر پیش کرنا۔ ـ ب (علی کیلئے) وجہ یا عذر پیش کرنا۔ ـ ب: کو بطور عذر، بہانہ پیش کرنا۔ عِلَّة جمع عِلَّات وعِلَل:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بیماری، مرض، کمی، نقص، کمزوری (جمع عِلَل) باعث، سبب، موقعہ، عذر، بہانہ، معذرت، علیٰ عِلّاتِہٖ: اپنی خامیوں کے باوجود، جیسے وہ ہے۔ العِلّة و المَعْلُول: علت و معلول، سبب و مسبب (Cause + Effect)۔ اتخذ المعلول علة: وہ غلطی سے معلول کو علت سمجھا۔ مُعَلّ: بیمار۔ مُعْتَلّ: بیمار، کمزور (حرف) ناقص (لفظ)۔

علب ۱۔ عَلَبَ ـُ عَلْبًا و عَلَّبَ الشیءَ: کو کاٹنا، پر نشان لگانا، پر خراش لگانا۔ عَلِبَ ـَ عَلَبًا السیفُ: تلوار کا دندانہ دار ہونا۔ العَلْب (مص) جمع عُلُوب: ضرب وغیرہ کا نشان۔

۲۔ عَلَبَ ـُ عُلُبًا و عَلِبَ ـَ عَلَبًا: سخت ہونا صفت: عَلِب۔ ـــ و استَعْلَبَ اللحمُ: سخت ہونے کے بعد گوشت کی بو بدل جانا۔ العَلْب و العِلْب و العُلَب جمع عُلُوب: سخت جگہ جہاں کچھ نہ اگے۔ سخت چیز، کہتے ہیں۔ رجُلٌ عِلْبٌ: خشک اور ظالم شخص۔ العِلْبَة جمع عِلَب: درخت کی موٹی گرہ۔ العِلْباء جمع عَلابِیّ (ع ا): گردن کے پہلو کا عضلہ۔ کہتے ہیں۔ تَشَنَّجَ عِلْباؤہٗ: وہ بوڑھا ہو گیا۔

۳۔ العُلْبَة جمع عِلاب و عُلَب: چمڑے یا لکڑی کا ڈبہ وغیرہ، گتے کا ڈبہ۔ عُلْبَةُ الکتاب: کتاب کی جلد بندی کیلئے گتے یا کپڑے یا چمڑے وغیرہ پر مشتمل سامان۔

○ عَلَّبَ ہ: کو ڈبوں میں بند کرنا، کو ٹین کے ڈبے یا ڈبوں میں بند کرنا۔ کو بوتلوں، ڈبوں یا کیپسول میں محفوظ کرنا۔ عُلْبَة جمع عُلَب و عِلاب: ڈبہ، بوتل، پکی، کیس (جیسے سگریٹ کیس) ٹین کا ڈبہ، کنستر۔

علث ۱۔ عَلَثَ ـِ عَلْثًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ ـــ الشیء بالشیء: کو سے ملانا کہتے ہیں۔ عَلَثَ البُرَّ بالشعیر: اس نے گیہوں جو میں ملا دیئے۔ العَلَث: گیہوں وغیرہ میں ملی ہوئی وہ چیز جو نکال کر پھینک دی جاتی ہے۔ جو میں ملی ہوئی گندم۔ الغُلاثَة: دوسری چیزیں ملی ہوئی چیز۔ ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کرنے والا۔ العَلیث: جو اور گیہوں کی روٹی۔ العِلْثة: جو میں ملا ہوا گیہوں۔

۲۔ عَلَثَ ـِ عَلْثًا الزندُ: چقماق کا آگ نہ دینا۔ تَعَلَّثَ الشیءَ: کو اچھی طرح نہ بنانا۔ اِعْتَلَثَ: بغیر انتخاب کے کچھ لے لینا۔ ـــ زنداً: درخت سے جس کے متعلق پتہ نہ ہو کہ وہ آگ دیگا یا نہیں۔ چقماق حاصل کرنا۔ العَلِث و المُعْتَلِث: بیکار تیر۔ اِعْلاثٌ الزاد: بغیر انتخاب کے کھایا جانے والا کھانا۔

۳۔ عَلِثَ ـَ عَلَثًا القومُ: آپس میں شدت سے لڑنا۔ تَعَلَّثَ بہ: سے چمٹنا۔

۴۔ تَعَلَّثَ لہ الذنوبَ: کی غلطیوں کے لئے عذر تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔

۵۔ العَلِث و المُعْتَلِث: جو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب ہو۔

علج ۱۔ عَلَجَ ـُ عَلْجًا و عُلُوجًا: پر معالجہ میں غالب آنا۔ کہتے ہیں۔ عالجہ فعَلَجَہٗ: اس نے معالجہ میں اس سے مقابلہ کیا اور اس پر غالب ہوا۔ عالَجَ مُعالَجَةً و عِلاجًا ہٗ: کو تن دہی سے کرنا، کو بجا لانا۔ ـــ المریضَ: مریض کا علاج کرنا۔ تَعالَجَ: علاج کرنا۔ ـــ القومُ: آپس میں لڑنا۔ اِعْتَلَجَ القومُ: آپس میں لڑائی کرنا، کشتی کرنا۔ اِعْتَلَجَت الوحشُ: درندوں کا ایک دوسرے کو مارنا۔ ـــ ت الامواجُ: موجوں کا آپس میں ٹکرانا۔ اعتلجت الهموم في صدره: غم اس کے سینہ میں متصادم ہوئے۔ رجُلٌ عَلِجٌ و عِلِجٌ عُلَجٌ و عُلَّجٌ: سخت کاموں کو کرنے والا۔ العِلْج جمع عُلُوج و اَعْلاج و عِلَجَة (ح): جنگلی گدھا، گدھا۔ کہتے ہیں۔ ہو عِلْجُ مال: وہ مال کے سامنے ہے۔ العِلاج (مص) دواء، طاقت۔ دفاع۔

۲۔ عَلِجَ ـَ عَلَجًا: سخت ہونا مضبوط ہونا۔ تَعَلَّجَ الرملُ: ریت کا اکٹھی ہونا۔ اِعْتَلَجَت الارضُ: زمین کا لمبے لمبے سبزہ والی ہونا۔ ـــ الرملُ: ریت کا اکٹھا ہونا۔ اِسْتَعْلَجَ جلدُہٗ: کی کھال موٹی ہونا۔ ـــ فلانٌ: کی داڑھی نکل آنا۔ العِلْج جمع عُلُوج و اَعْلاج و عِلَجَة: طاقت ور فربہ جنگلی گدھا، عجمی کافروں کا طاقت ور بڑے ڈیل ڈول والا مرد۔ بعض لوگ مطلق کافر پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔

۳۔ العَلْجَم: لمبا اونٹ یا گدھا۔ بہت پانی والا تالاب۔ العُلْجُم: انتہائی سیاہ۔ العُلْجُوم جمع عَلاجِیم: انتہائی سیاہ، بہت کھجوروں کے درختوں والا باغ۔ سمندر کی لہر، بہت پانی، جھاڑی، لوگوں کی جماعت، رات کی تاریکی (ح) نر مینڈک (ح) مینڈھا (ح) پہاڑی بکرا (ح) بوڑھا بیل (ح) ایک سفید رنگ کا پرندہ (ح) نر بطخ (ح) نر شتر مرغ۔

○ عالَجَ ہٗ: (مریض) کا علاج کرنا۔ ـــ ہ (بیماری) کا علاج کرنا (موضوع) پر کہنا یا لکھنا، کو پیش کرنا۔ ـــ ہ/ہ میں مشغول رہنا، میں لگا رہنا، سے وابستہ ہونا، سے برتاؤ کرنا، پر توجہ کرنا، کا رخ کرنا۔ ـــ ہ ادبی صنف) و ترقی دینا، بہتر بنانا، کو پیش کرنا پر کچھ کہنا یا لکھنا [illegible] میں حصہ لینا [illegible]

کاوش کرنا، کا بوجھ یا کی ذمہ داری اٹھانا، سے گزرنا، برداشت کرنا، کڑیاں جھیلنا، کو چلانا، پر کام کرنا، کو بنانا۔ کو ٹھیک کرنا، کو سبکدستی سے چلانا یا پر سبکدستی سے کام کرنا یا اسے خوش اسلوبی سے نبٹانا، کو ہاتھ میں لینا یا سے نبٹنا، سے کام لینا، ـــ ہ ان کوشش کرنا کہ، بڑی محنت اور کوشش سے کوئی کام کرنا۔ ـــ ہ کو چھونا، پر اثر ڈالنا، پر اثر انداز ہونا، کو آمادہ کرنا۔ عالَجَ الرمقَ الاخیرَ: بر لب مرگ ہونا، مر رہا ہونا۔ عالَجَہٗ بطعنة: کو چھرا گھونپ دینا۔ تَعالَجَ: زیر علاج ہونا، طبی علاج سے مستفید ہونا۔ اِعْتَلَجَ: ایک دوسرے کیساتھ کشتی لڑنا، لڑنا، جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، سخت اضطراب یا افراتفری اور بے چینی میں ہونا، چڑھنا اور اترنا ابھر کر گرنا، امنڈ آنا، کانپنا، لرزنا، تھرانا۔ عِلْج جمع عُلُوج: کافر، بے ڈول، بے ڈھنگا، بھونڈا بھدا شخص۔ گنوار، ان گھڑ۔ عِلاجی: شفا بخش، دافع مرض، معالجاتی، علاجی۔ تَعالُج: طبی علاج۔

علد: عَلِدَ ـَ عَلَدًا: سخت ہونا، صفت عَلُدٌ۔ العَلْد جمع أَعْلاد: گردن کا پٹھا۔ ـــ ن نبات یا پودا، جس کے بیج ننگے رہتے ہیں۔ کچھ پھول نر اور کچھ مادہ ہوتے ہیں۔ ایک قسم بحر ابیض متوسط کے ساحلوں پر اگتی ہے۔ العَلَنْدیٰ و العُلَنْدیٰ جمع عَلانِد و عَلادی العَلَنْدَد من کل شیء: ہر موٹی اور سخت چیز۔

علز ۱۔ عَلِزَ ـَ عَلَزًا و عَلَزانًا: بے چین ہونا صفت عَلِزٌ۔ ـــ من کذا: بیمار بننا۔ اَعْلَزَ ہٗ: کو عاجز کرنا۔ ـــ ہُ الوجعُ: کو درد کا بے چین کر دینا۔ عَلَزُ الموت: مرنے والے کی بے چینی۔

۲۔ عَلِزَ ـَ عَلَزًا و عَلَزانًا الی الشیء: کی طرف مائل ہونا، کا مشتاق ہونا۔

علس: عَلَسَ ـِ عَلْسًا الماءَ: پانی پینا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کو کھانے کے لئے کچھ مل جانا۔ عَلَّسَ الداءُ: بیماری کا سخت ہو جانا۔ ـــ الرجلُ: آدمی کا شور مچانا۔ کہتے ہیں: ما عَلَّسُوہ تعلیسًا: انہوں نے اُسے کچھ نہیں کھلایا۔ العَلْس و العُلاس و العَلُوس: کھانا، خوراک۔ المُعَلَّس من الرجال: آزمودہ شخص۔

علص: عَلِصَت التخمةُ في معدته بدہضمی کے سبب معدہ میں درد ہونا۔ عالَصَ عِلاصًا ہٗ: ایک دوسرے کو مارنا۔ اِعْتَلَصَ منہ شیئًا: سے بہت ہی تھوڑی سی چیز لینا۔ العِلَّوص: بدہضمی۔ یہ لفظ صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: رجُلٌ عِلَّوص یعنی بدہضمی میں مبتلا شخص۔

علض: عَلَضَ ـِ عَلْضًا الوتدَ و نحوَہٗ: کھونٹی کو

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اکھیڑنے کے لئے ہلانا۔

علط:۱۔ عَلَطَ ـُ عَلْطًا الناقةَ: اونٹنی پرداغ لگانا۔ عَلَّطَ الناقَةَ: اونٹنی پرداغ لگانا۔ ــ البعیرَ اونٹ کی گردن سے پٹہ نکال دینا۔ تعَلَّطَ القوسَ: پرتانت چڑھنا۔ اِعْلَوَّطَ البعیرَ: اونٹ کی گردن پر لٹک کر سوار ہونا۔ ــــ الامرَ: سوچے سمجھے بغیر کسی معاملہ میں تیزی سے جا گھسنا۔ العُلُط من النوق جمع اعلاط: بے مہار اور بے نشان اونٹنی، اعلاطُ الکواکب: بے نام ستارے۔ العِلاط جمع اَعْلِطَة و عُلُط: گردن کا پہلو، اونٹ کی گردن کی رسی، آفتاب کی شعاع۔ ــــ و الاِعْلِیط: اونٹ کی گردن کا نشان۔

۲۔ عَلَطَ ـُ عَلْطًا و عَلَّطَ هُ بشرٍّ: کی بدگوئی کرنا۔ اِعْتَلَطَ الرجلَ و به: سے جھگڑا کرنا۔ العِلاط جمع اَعْلِطَة و عُلُط: لڑائی اور جھگڑا۔

علف: ۱۔ عَلَفَ ـِ عَلْفًا الدابةَ جانور کو چارہ دینا صفت مفعولی عَلِیف جمع عَلائِف و مَعْلُوفة۔ عَلَّفَ و أعْلَفَ الدابةَ: جانور کو چارہ دینا۔ تَعَلَّفَ: چارہ ڈھونڈنا۔ اِعْتَلَفَ ت الدابةُ: جانور کا چارہ کھانا۔ اِسْتَعْلَفَ ت الدابةُ: جانور کا ہنہنا کر چارہ مانگنا۔ العِلْف: بہت کھانے والا۔ العَلَف جمع عُلُوفة و اَعْلاف و عِلاف: چارہ۔ العَلّاف جمع عَلّافة: چارہ کا مالک، چارہ فروش۔ العَلُوفَة (واحد جمع کیلئے): جانور جسے گھر پر چارہ دیا جائے اور چرنے کیلئے نہ بھیجا جائے۔ ــ جمع عُلُف: چارہ۔ العَلِیفَة جمع عَلائِف: وہ جانور جسے چارہ کھلایا جائے چرنے کے لئے نہ بھیجا جائے۔ المَعْلَف و المِعْلَف جمع مَعَالِف: چارہ کھانے کی جگہ۔

۲۔ عَلِفَ ـَ عَلَفًا الرجُلُ بہت پینا۔

۳۔ عَلَّفَ و اَعْلَفَ الطلحُ: کیلے کی پھلی نکلنا۔ العُلَّف: ببول کی پھلی۔

۴۔ عَلْفَطَ الشيءَ بالشيءِ کو میں ملانا۔

○ عَلَفَ ـِ عَلْفًا ہ (مویشی کو) چارا کھلانا، کے آگے چارہ ڈالنا۔ عَلَف جمع اَعْلاف و عِلاف و عُلُوفہ: چارا، علّاف جمع عَلّافة چارا فروش۔ عُلُوفة جمع عَلائِف جانور جسے تھان پر چارہ دیا جاتا ہو۔ جمع عُلُف: چارہ۔ مِعْلَف جمع مَعَالِف: ناند (جس میں چارہ ڈالا جاتا ہے۔ کھرلی۔ مَعْلُوف وہ جانور جسے تھان پر ہی چارا دیا جاتا ہے اور موٹا کیا جاتا ہو۔

علق:۱۔ عَلَقَ ـُ عَلْقًا و عُلُوقًا البعیرُ و نحوہ النباتَ و من النبات: اونٹ وغیرہ کا پودے یا سبزی کو اوپر اوپر سے چرنا۔ ــ الصبيُّ: بچہ کا انگلیاں چوسنا۔ عَلِقَ ـَ عَلَقًا ت الابلُ في الوادی: اونٹوں کا وادی میں چرنے کیلئے جانا۔ العَلَق (واحد عَلَقَة): درخت کا وہ حصہ جہاں چوپائے پہنچ سکیں۔ العُلْقَة جمع عُلَق: درخت کا وہ حصہ جسے چوپائے کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے جس چیز سے دل بہلایا جائے۔ تھوڑی چیز۔ کہتے ہیں: لم یبْقَ عندہ عُلْقَةٌ: اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ العَلاق: درخت کا وہ حصہ جہاں تک چوپایوں کی رسائی ہوسکے۔ کھانے سے پہلے وہ چیز جس سے دل بہلایا جائے۔ العَلاقة جمع عَلائِق: گزر بسر کا ذریعہ۔

۲۔ عَلَقَ ـُ عَلْقًا الرجُلَ: کو گالی دینا۔ و ــ هُ بلسانہ: کو بدگوئی کے ذریعہ تکلیف پہنچانا۔ العَلاقة جمع عَلائِق: دشمنی۔ المِعْلاق جمع مَعَالِیق: زبان۔ رجُلٌ مِعْلاقٌ: جھگڑالو۔

۳۔ عَلِقَ ـَ عُلُوقًا الوحشُ بالحبالة: وحشی جانور کا جال میں پھنس جانا۔ ــــ ت المرأةُ و کُلُّ انثی بالولد: عورت یا ہر مادہ کا حاملہ ہونا۔ ــــ ت الدابةُ: جانور کو پانی پیتے ہوئے جونک کا چمٹ جانا۔ ــ الشوكُ بالثوب: کپڑے میں کانٹا لگ جانا۔ ــــ عِلْقًا امرَہُ: کو جان لینا۔ ــ یفعل کذا: کچھ کرنے لگنا۔ عُلِقَ الرجُلُ: کے گلے میں جونک لگ جانا صفت مَعْلُوق۔ عَلَّقَ الشيءَ بالشيء و علیہ و منہ: چیز کو چیز کے ساتھ، یا اس پر یا اس سے لٹکانا۔ ــــ الامرَ: سے چمٹنا۔ ــــ للدابّة: جانور کو چارہ دینا۔ ــــ بابًا علی دارہ: گھر میں دروازہ لگانا۔ ــــ البابَ دروازہ بند کرنا۔ اَعْلَقَ القوسَ: کمان لٹکانے کے لئے تسمہ بنانا۔ ــ الصائِدُ: شکاری کے جال میں شکار کا پھنسنا۔ ــــ الرجُلُ خون چوسنے کیلئے جونک لگانا۔ ــ ظفرَہُ بالشيءِ: کسی چیز کو ناخن چبھونا۔ ــ الشيَّ بالشيء: کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ لٹکانا۔ تَعَلَّقَ الشيءَ کو لٹکانا۔ الشوكُ بالثوب او الصیدُ بالحبالة: کانٹے کا کپڑے میں الجھنا، شکار کا جال میں پھنسنا۔ العَلَق (مص) جمع اَعْلاق و عُلُوق: کپڑے میں سراخ کہتے ہیں: في ثوبہ عَلَقٌ: اس کے کپڑے میں کسی چیز کے الجھنے سے پھٹن ہے۔ العِلْق (مص) جمع اَعْلاق و عُلُوق: بمعنی عَلَق۔ العُلُق: اشغال، موتیں۔ العَلَق مص (واحد عَلَقَة): خون (ح) جونک، ہاتھ سے چمٹنے والی مٹی۔ العِلْقَة: قسم، نوع۔ العَلاقة جمع عَلائِق: موت، مال و دولت، بیوی، اولاد کا تعلق، رفتہ کہتے ہیں: ما بینهما عَلاقة: ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔ العِلاقة جمع عَلائِق: ہانڈی وغیرہ لٹکانے کی چیز، کہتے ہیں: عِلاقةُ السیف والسوط والقوس: تلوار، کوڑے، کمان کا تسمہ۔ درخت پر لٹکتا ہوا پھل۔ ڈھل العَلُوق: جس کا انسان سے تعلق ہو۔ بہت چمٹنے والا۔ موت، مصیبت۔ العَلِیق: جانور کا چارہ جیسے جو وغیرہ۔ العُلَّیق و العُلَّیقَی (ن): خاردار جھاڑی، جھاڑ بیری، جھاڑ، رس بھری۔ التَعْلِیقَة جمع تَعَالِیق: حاشیہ کتاب۔ المُعَلَّقَة: مُعَلَّق کا مونث، وہ عورت جس کا شوہر لاپتہ ہوگیا ہو اور نہ شادی شدہ ہو اور نہ مطلقہ۔ المُعَلَّقات: زمانہ جاہلیت کے سات قصیدے، جن کو کعبہ میں لٹکایا گیا تھا۔ المِعْلَق: وہ پیالہ جس کو سوار اپنے ساتھ لٹکائے رکھتا ہے۔ المِعْلاق جمع مَعَالِیق: ہر وہ چیز جس سے لٹکایا جائے۔ ذبح شدہ جانور کے پھیپھڑے، جگر اور دل۔ (عام زبان میں)۔ فصیح لفظ سُحَارَہ ہے۔

۴۔ عَلِقَ ـَ عُلُوقًا و عِلْقًا و عَلَقًا و عَلاقةً فلانًا و عَلِقَ بہ: سے محبت کرنا۔ ــــ حُبُّہُ بقلبہ: سے محبت کرنا، کہتے ہیں: عَلِقَ منہ کلَّ مُعْلَقٍ: اس نے اس سے محبت کی اور محبت دل کے پردوں میں داخل ہوگئی۔ عَلِقَ مَعَالِقَهُ: وہ اپنے مقام میں واقع ہوا۔ عُلِّقَ هُ: کی طرف کے دل کا مائل ہونا۔ تعَلَّقَ و اِعْتَلَقَ فلانًا و بہ: سے محبت کرنا۔ العَلْق و العِلْق جمع اَعْلاق و عُلُوق: ہر نفیس چیز، کہتے ہیں: هو عِلْقُ عِلْمٍ: وہ علم کا شائق ہے اور اس کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ العِلْقَة: بہترین کپڑا۔ العُلْقَة جمع عُلَق: تعلق کہتے ہیں۔ لی في هذا المال عُلْقَةٌ: مجھے اس مال سے تعلق ہے۔ العَلاقَة (مص) عَلائِق ذوستی، ربط، محبت کہتے ہیں: لِی في هذا عَلاقَة: مجھے اس سے تعلق ہے۔

۵۔ عَلِقَ ـَ عُلُوقًا و عِلْقًا و عَلَقًا و عَلاقةً دمَ فلانٍ کو قتل کرنا۔

۶۔ العُلَق: بہت یا کثیر جماعت۔ العِلْقَة بغیر آستینوں کی قمیض۔

۷۔ عَلْقَمَ الشيءُ کڑوا ہونا۔ ــــ الطعامَ کھانے میں کڑوی چیز ملانا۔ العَلْقَم (ن) اندرائن، حنظل، ہر کڑوی چیز۔

○ عَلِقَ ـَ عَلَقًا: لٹکنا، ــ ب: سے چمٹنا، چپکنا، چسپاں ہونا، ــ ب: کا رائج ہونا، چل نکلنا، ــ في کو لگنا۔ ــ ب / في: میں پھنس جانا، ــ ب: سے منسلک ہونا، پر چسپاں ہونا، چپکنا، لگنا ــــ عُلُوقًا و عَلاقةً ب: کے ساتھ ہونا، رہنا، سے وابستہ ہونا، کیلئے مخصوص ہونا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کیلئے وقف ہونا، کا شائق ہونا۔ عَلِقَ یفعل: کرنا شروع کرنا، کرتے رہنا۔ عَلِقَت عُلُوقًا: عورت کا حاملہ ہو جانا۔ عَلَّقَ ہ علی / ب: کو پر لٹکانا۔ — ہ علی / ب: کو سے منسلک کرنا، جوڑنا، لگانا، باندھنا۔ — ہ: کو فیصلے کے بغیر چھوڑ دینا، ملتوی رکھنا، کو التوا میں رکھنا۔ — ہ ب / علی: کو سے مشروط کرنا، کو پر منحصر کرنا، سے وابستہ کرنا۔ — علی: پر تبصرہ کرنا، تنقید کرنا، کی شرح لکھنا یا کی شرح کرنا، کی فرہنگ لکھنا، پر حاشیہ چڑھانا، کی تشریح کرنا، پر نوٹ لکھنا، کی تفسیر کرنا، کے بارے میں نوٹ لکھنا۔ — ہ: کی یادداشت قلمبند کرنا، جلدی سے کچھ لکھنا۔ عَلَّقَ الآمال علی: سے امیدیں وابستہ کرنا۔ عَلَّقَ اَهَمِّیَّةً (خطورةً) علی: کو اہمیت دینا۔ اَعْلَقَ ہ ب: کو پر لٹکانا، کو سے منسلک کرنا، جوڑنا، باندھنا۔ — : جونکیں لگانا۔ تَعَلَّقَ ب: سے لٹکنا، سے چمٹنا، چپکنا، پر چسپاں ہونا، کے ساتھ رہنا، سے وفاداری کرنا، سے چمٹا رہنا، کو تھامے رہنا، سے منسلک ہونا، سے وابستہ ہونا، کیلئے مخصوص ہونا، وقف ہونا، کا شائق ہونا، — علی / ب: پر بھروسہ کرنا، پر منحصر ہونا، یا سے مشروط ہونا، سے متعلق ہونا، کا رکن ہونا، سے وابستہ ہونا، سے تعلق رکھنا، تَعَلَّقَ بحبه: کا دلدادہ ہونا، سے پیار کرنا، محبت کرنا، سے دلی طور پر وابستہ ہونا۔ فیما یتعلق ب: کے متعلق، کے بارے میں جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ عِلْق و عَلَق جمع اعلاق: بیش قیمت، گراں بہا، قیمتی چیز، قدر و قیمت والی چیز۔ عَلَق (اسم جنس واحد عَلَقَة) جمع عَلَقَات: جونک، طبی جونک، (منجمد) خون، خون کا منجمد قطرہ، عَلَقَة: زدوکوب، مار پیٹ، شاندار، عمدہ۔ عَلِیق جمع عَلَائِق: چارا، علاق کوٹ ٹانگنے کا ہینگر۔ عَلَاقَة: تعلق، وقف، شدید الفت، جانثاری، محبت، چاہ، لگن، پیار، بندھن، رشتہ، ربط، واسطہ۔ — ب: سے الحاق، شرکت، سے ربط، اتصال، تعلق، سے رشتہ، العلاقات العامة: تعلقات عامہ۔ Public relations ذو عــــلاقة ب: سے متعلق۔ السلطات ذات العلاقة: مجاز حکام۔ قَطْعُ العلاقات (العلائق): تعلقات کا انقطاع۔ تَوَتُّرُ العلاقات (العلائق): تعلقات کی کشیدگی، عِلاقة جمع عَلَائِق: چمڑے کا تسمہ، فیتہ، تسمہ، فیتہ، جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے۔ عَلاقة کوٹ ٹانگنے کا ہینگر۔ اعلق بالذهن: جس کی طرف ذہن زیادہ مائل ہو۔ مِعْلاق جمع معَالیق: (جانور کے) اعضاء رئیسہ جیسے دل، جگر، پھیپھڑے وغیرہ۔ تعلیق: لٹکانا، عارضی قیام، معافی یا منسوخی، التواء، تعلیق، تعویق، تاخیر، تعطل، معطلی، علامت تخییر (Oblique) جمع تعلیقات و تعالیق: شرح، تفسیر، تنقید، تبصرہ، توضیحی ریمارکس، لٹکتا ہوا لیمپ۔ تعلیق الطلاق: مشروط قطع تعلق، مشروط اعلان طلاق، تعلیق علی الانباء: خبرنامہ۔ تَعْلِیقَة جمع تعلیقات و تعالیق: حاشیہ، شرح، نوٹ۔ مُعَلِّق: کمنٹری والا۔ شارح (ریڈیو، پریس)۔ مُعَلَّق ب / علی: پر منحصر سے مشروط۔ جِسْرٌ مُعَلَّق: لٹکتا پل، معلق پل Suspension bridge۔ مسائل مُعَلَّقة: زیر غور مسائل۔ Pending questions رَغْبَتُه مُعَلَّقة ب: اس کی خواہش کا رخ کی جانب ہے۔ مُعَلَّقة جمع مُعَلَّقات: بڑا اشتہار، اٹھایا ہوا اشتہار۔ Placard، پوسٹر، اشتہار۔ من متعلقاته: پر منحصر، کے اختیار سے متعلق۔ ذَاقَ العَلْقَمَ مِن: سے پریشانی اٹھانا، سے تلخی میں مبتلا ہونا۔ سے اذیت پانا، کی حیلہ بازیاں یا پرفریب استدلال جھیلنا۔

علك ا۔ عَلَكَ ـِ عَلْكًا العِلْكَ و نحوہ: مصطگی وغیرہ چبانا۔ — نابیہ: دانت پیسنا۔ عَلَّكَ الجلد: کھال کو اچھی دباغت دینا۔ العِلْك جمع عُلُوك و اَعْلاك: ہر چبائی جانے والی گوند۔ مصطگی العِلْكَة: مصطگی کا ایک ٹکڑا۔ العَلِك: ہاتھ وغیرہ سے چمٹ جانے والی چیز۔ العُلاك و العَلاك: چبائی جانے والی چیز۔ العَلّاك: بہت چبانے والا، گوند بیچنے والا۔ مصطگی فروش۔

۲۔ عَلَكَ یَدَیْهِ علی مالِهِ: بخل کی وجہ سے ہاتھ روک لینا۔

○ عَلَكَ ـِ عَلْكًا ہ: کوئی چیز چبانا، چابنا۔ — اللجام: (گھوڑے کا) اپنی لگام کا دہانہ چابنا یا چپڑ چپڑ چبانا۔

علم: ا۔ عَلَمَ ـُ عَلْمًا ہ: پر نشان لگانا۔ عَلَّمَ لهُ علامةً: کی پہچان کے لئے علامت لگانا، پر پہچان کا نشان لگانا۔ اَعْلَمَ الفرسَ: جنگ میں گھوڑے پر رنگی ہوئی اون کا نشان لگانا۔ الثوبَ: کپڑے پر نشان بنانا، نقش و نگار بنانا۔ — نفسَهُ: اپنے آپ پر لڑائی کی علامت لگانا۔ — علی کذا من الکتاب وغیرہ: کتاب وغیرہ پر نشان لگانا۔ اِعْتَلَمَ البرقُ: پہاڑ میں آسمانی بجلی کا چمکنا۔ العَلَم جمع اَعْلام: کپڑے کا نشان اور نمبر، جھنڈا۔ نیزہ پر باندھی جانے والی چیز، سردار قوم — جمع اَعْلام و عِلام: نشان راہ، نشان قدم، منارہ، اونچا یا لمبا پہاڑ۔ العَلامة جمع عَلام و عَلامات: نشان، نشان راہ، جمع کا نشان (+)۔ تفریق کا نشان (−)۔ الاُعْلومة جمع اعالیم: علامت۔ المَعْلَم جمع مَعَالِم: راستہ کا نشان۔ مُعَلَّم الشیء: چیز کے پائے جانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ خَفِیَتْ مَعَالِمُ الطریق: راستہ کی نشانیاں چھپ گئیں۔

۲۔ عَلِمَ ـَ عِلْمًا الرجلُ: حقیقت علم کو پالینا۔ — الشیءَ: کو پہچاننا، کا یقین کرنا۔ — الشیء و بِه: کو جاننا، کا ادراک کرنا۔ — الامر: کو مکمل کرنا۔ عَلَّمَ تَعْلِیمًا و عِلّامًا ہ الصنعةَ وغیرها: کو کوئی کام وغیرہ سکھانا۔ عَالَمَ ہ فَعَلَمَهُ: کا علم میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا، سے زیادہ علم والا ہونا۔ اَعْلَمَ ہ الامرَ و بالامر: کو سے مطلع کرنا۔ تَعَلَّمَ: سیکھنا۔ کہتے ہیں۔ عَلَّمْتُهُ فَتَعَلَّمَ: میں نے اسے سکھایا اور وہ سیکھ گیا۔ — الامرَ: میں ماہر ہونا، کو مکمل کرنا۔ تَعَلَّمْ (امر کے صیغہ میں): اِعْلَمْ کے معنی میں ہے جو ظَنَّ کی اخوات (معنی میں متشابہ الفاظ) سے ہے۔ تَعَالَمَ القومُ الشیءَ: کو جاننا۔ اِعْتَلَمَ الشیءَ: کو جاننا۔ اِسْتَعْلَمَ ہ الخبرَ: سے خبر دریافت کرنا۔ العِلْم (مص) جمع عُلُوم: حقیقت شے کا ادراک یقین، معرفت۔ العِلْم التعلیمی: علم ریاضی جیسے حساب، مساحت، موسیقی، عِلْمُ التنجیم او عِلْمُ النجوم: نجوم، جوتش۔ العِلْمُ العملی: عملی علم جو کام کی کیفیت سے متعلق ہے جس میں فنون و علوم اور اس کے مبادی کے قواعد کی تطبیق کی جاتی ہے۔ عِلْمُ الفلك: علم ہیئت، فلکیات، ہیئت افلاک، ہیئت۔ العِلْمُ اللَّدُنّی: اللہ تعالیٰ سے کسی واسطے کے بغیر بذریعہ وحی سیکھا ہوا علم۔ العلم النظری: علم عملی کا الٹ، جو کام کی کیفیت سے متعلق نہیں ہوتا۔ العُلُوم المُدَوَّنة: کتابوں میں لکھے ہوئے علوم۔ العلوم المتعارفة: علوم مُدَوَّنہ میں واضح مقدمات۔ العلوم الآلیة: دوسرے علوم کے حصول کا آلہ جیسے علم منطق۔ العلوم العربیة: عربی زبان سے متعلق علوم جیسے صرف، نحو، معانی بیان، یہ علم الادب کہلاتے ہیں۔ العلوم الشرعیّة: علوم مُدَوَّنہ جن میں عملی اور اعتقادی شرعی احکام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انہیں دینی علوم بھی کہا جاتا ہے جیسے علم الکلام اور فقہ۔ العلوم الحقیقیة: وہ علوم جو ملتوں، ادیان کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتے جیسے علم کلام اور علم منطق۔ العلوم الالٰهیّة: وہ علوم جو مطلق ہستی سے جیسے وہ ہے اور غیر مادی امور سے بحث کرتے ہیں جیسے واجب، ممکن۔ علت و معلول۔ ان میں ارواح، اللہ تعالیٰ پر بحث بھی شامل ہے۔ یہ علم علم اعلیٰ و فلسفہ اولیٰ اور مابعد الطبیعت کا علم کہلاتا ہے۔ علم النفس: نفسیات (سائیکولوجی)۔ علم طبقات الارض:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ارضیات (Geology)، علم الحیاۃ: حیاتیات
(Biology)، علم الاجتماع: عمرانیات
(Sociology)- عِلمُ وظائف البدن: علم
اعضاء، عضویات (Physology) علم اعضاء
البدن: علم اعضاءِ جسم- العَالِم (فا) جمع عُلَّام
وعَالِمون و العلیم جمع عُلَماء: موصوف بالعلم،
صاحب علم- العَلَّام و العُلاَّم و العَلاَّمۃ و
التِعْلاَمۃ: بہت زیادہ جاننے والا، بڑا عالم- الاَعْلَم
م عَلمَاء جمع عُلَم: اسم تفضیل- اللّٰہ اَعلَم: سب
جاننے والوں سے زیادہ جاننے والا- اِعْلامُ الحُکم
جمع اِعْلاَمات: دعویٰ میں جج کے حکم کی نقل- المَعْلُوم
(مفعول): معلوم معروف- جمع مَعَالِیم و معلومات:
فیس، پیشہ ورانہ خدمات کی اجرت- المَعْلُومِیۃ:
پیشہ ورانہ خدمات کی اجرت یا فیس کے متعلق-

۳- عَلَمَ یَعْلَمُ عَلْمًا الشَفۃَ: ہونٹ چیرنا- عَلِمَ- عَلَمًا:
کا اوپر کا ہونٹ پھٹنا۔ صفت- اَعْلَم- الاَعْلَم م
عَلْماء جمع عُلْم: وہ شخص جس کا اوپر کا ہونٹ پھٹا
ہوا ہو- العُلْمۃُ و العَلَمَۃ: اوپر کے ہونٹ کی پھٹن-

۴- اِعْتَلَم الماءُ: پانی کا بہنا- العَیْلَم: بہت پانی والا
کنواں، سمندر-

۵- عَلاَمَ: (علی حروف جار اور ما استفہامیہ سے مرکب
ہے۔ الف حذف کر دیا گیا ہے) کس پر؟ العَالَم جمع
عَوَالِم و عَالَمُون و عَلاَلِم: ساری مخلوق-
العَلْم: عالَم- العَلْمانی: غیر ملا، غیر پادری۔ دنیا
دار، غیر ماہر، باقاعدہ علم نہ رکھنے والا- العَلْماء: ذرہ
بکتر- العُلاَم و العُلاَّم (ح): شکرہ باز- ـــــــ
العُلاَمِیّ: سبک روح، تیز فہم- العَیْلام جمع عَیَالِم
(ح): بزبجو- العَیْلَم جمع عَیَالِم (ج): نر بجو-
(ح): مینڈک-

۶- العِلْماد و العِلْمادۃ جمع عَلاَمِدۃ و عَلاَمِید: جس پر
دھاگے کا گولہ بنایا جائے۔ سلائی دار پونی-

۷- عَلِمَ- عِلْمًا ہ / ھ / ب کو جاننا، ـ ھ / ب کا علم
رکھنا- سے آگاہ ہونا، باخبر ہونا، واقف ہونا، سے مطلع
ہونا، کو دیکھ لینا، سمجھ لینا، (بصارت یا بصیرت سے) کو
صاف صاف دیکھ لینا- ـ ھ / ب مِن ب سے کے بارے
میں معلوم کرنا، دریافت کرنا- ـ ھ مِن کا سے امتیاز
کرنا کے درمیان فرق کرنا- ـ عَلَّمَہ ہ بیا ـ ہ ھ:
کو کچھ سکھانا، کو کی تعلیم دینا، کو کے بارے میں بریف
کرنا، (آخری ہدایات یا اطلاع دینا)- ـــ ہ کو تعلیم
دینا، کو ٹریننگ دینا- ـــ علی پر مخصوص نشان لگانا
و ابلگ کرنا، اَعْلَمَہ ہ ھ / ب کو سے مطلع کرنا، کو کی
اطلاع دینا، کو کے بارے میں آگاہ کرنا، کو کے بارے
میں بتانا، کو سے واقف کرنا- تَعَلَّمَ ہ کو سیکھنا، کو معلوم
ہونا، کا مطالعہ کرنا، کو پڑھنا- اِستَعْلَمَہ ہ ھ / عن:
سے کے بارے میں پوچھنا، دریافت کرنا، کے ذریعے
کے بارے میں مطلع ہونا، سے کے بارے
میں معلومات جمع کرنا- عِلْم: علم، جاننا، علم ہونا،
سیکھنا، آگاہی، واقفیت، شناسائی، اطلاع، ادراک جمع
علوم: سائنس- العلوم: طبیعی علوم (Natural
Sciences) عِلمًا و عَمَلاً: نظری یا نظریاتی طور پر
اور عملی طور پر (Theoratically
andpractically)- لیکن فی علمہ: اسے
معلوم ہو، اس کے علم میں آئے، اس کی اطلاع کیلئے-
کان علی علم تام ب: سے پوری طرح واقف
ہونا، کا پورا پورا علم رکھنا، کی مکمل واقفیت رکھنا- علمُ
الجراثیم: علم جراثیم، جرثومیات، جراثیمیات-
(Bacteriology)- علم الحساب: حساب
Arithmetic- علم الحیاۃ و علم الاحیاء:
حیاتیات (Biolgy) علمُ الحیوان: حیوانیات
(Zoology)- علم الاخلاق: علم اخلاق،
اخلاقیات (Ethics)- عِلمُ الذرات: جوہری
طبیعیات Nuclear Physics- علمُ التربیۃ:
معلمی (Peda gogy)- علمُ الصحۃ: حفظان
صحت- (hygiene)- علم الاصوات:
صوتیات Phonetics- علم المعادن:
معدنیات Minercology- علمُ اللغۃ: لغت
نویسی Lexicography- علم النباتات: علم
نباتات- نباتیات (Botany) علم النفس:
نفسیات (Psychology)- علم وظائف
الاعضاء: علم اعضاء عضویات Physiolygy-
طالبُ علم: طالب علم- کلیۃ العلوم: مصری
یونیورسٹی کا شعبہ سائنس- علمی: سائنٹیفک، سائنسی،
یا عالمانہ (کتاب) علمی (سوسائٹی)- عَلَم جمع اَعْلام:
نشان- علامت، بلا (Badge)- امتیازی نشان،
خصوصیت، وصف، نشان راہ، رہنما کھمبا، رہنما ہتھا
(Guide post)- جھنڈا، ممتاز اور نمایاں شخص، ممتاز
شخصیت، سند، ماہر، اتھارٹی (Authority): ایک
ستارہ، مشہور شخصیت، اسم معرفہ- اشہر من نار
علی عَلَم: بہت مشہور- اسمُ عَلَم: اسم معرفہ
(Propername) جمع اسماء الاعلام- عَلَم
الوصول: رسید (Receipt)- عَالَم جمع عَالَمُون
وعوالم: دنیا، کائنات، کون و مکان، کارخانہ قدرت-
العالمان: دو دنیائیں (یورپ اور امریکا) عالمون:
لوگ، دنیا والے۔ خصوصاً انسان عالم الحیوان:
مملکت حیوانات، عالم المعادن: دنیائے معدنیات-
عالم النبات: دنیائے نباتات- عالمُ الوجود:
یہ دنیا، یہ زندگی، عالمی: دنیاوی، دنیوی، لادینی،
غیر مذہبی- عالمی بین الاقوامی- عالمگیر، عالمی
شہرت یافتہ، مشہور عالم- عالمیۃ: بین الاقوامیت
عالمگیریت- عَلمانی و عالمانی دنیادار، دنیا
دارانہ، غیر ماہر، اناڑی، غیر ماہرانہ، اناڑیوں کا سا، جمع
علمانیون، عالمانیون: غیر ملا، غیر پادری، دنیادار-
عَلِیم جمع عُلَماء: جاننے والا، واقف، مطلع، عالم فاضل-
العَلِیم: خدائے علیم و بصیر (the Omniscient)
عَلاَّم: پوری طرح جاننے والا، مکمل واقف، عَلاَّمۃ:
بہت عالم فاضل، بہت عالم- عَلاَمۃ جمع عَلاَمات
وعلائم: نشان، رمز، نشانی، بیج (Badge)- علامت،
ڈھال پر نشان، امتیازی نشان۔ خصوصیت، وصف،
دلیل، بیماری کی علامت، عرض Symptom-
علامۃ ھذا: اس کی نشانی کے طور پر، اس کی علامت
کے طور پر، علامۃ تجاریۃ: ٹریڈ مارک (Trade
mark)- علامۃُ الرُتبۃ: عہدے کا نشان
(Insignia of rank)- فُجائیۃ: فجائی علامت
علامۃ الاستفہام: سوالیہ نشان (؟)- علامۃ
التنصیص: واوین (علامت اقتباس)- تِعْلاَمۃ:
بہت عالم فاضل- مَعْلَم جمع مَعَالِم: جگہ،
مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، علاقہ مقام جگہ، راہ، آثار،
جھلک، سنگ میل (Land mark)- نشان،
امتیازی نشان، خصوصیت، وصف، سڑک کا نشان،
رہنما کھمبا، رہنما ہتھا- (جمع): قابل دید مقامات،
نوادر، طرہ ہائے امتیاز، امتیازی اوصاف (جسم) کے
نشیب و فراز، اہم نکات، چہرہ مہرہ، خدوخال، شکل و
صورت- مَعْلَمۃ جمع مَعْلَمات: انسائیکلوپیڈیا
(Encylopedia)- تعلیم جمع تعلیمات و
تعالیم: اطلاع، ہدایت، تعلیم، معارف، تربیت،
سکول کی تعلیم Schooling کار آموزی
(Apprenticeship) جمع تعلیمات:
ہدایات، ہدایت نامہ، اطلاع، معلومات، اطلاعات،
تعلیم مختلط: مخلوط تعلیم (co education)-
تعلیم عالی: اعلیٰ تعلیم higher education-
جامعاتی حصول تعلیم میں مصروفیت (Academic
studies)- مراقب تعلیم باسٹر سرجنٹ
(Master sergeant)- صول تعلیم باسٹر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سرجنٹ۔ فنُ التعلیم: معلّمی Peadagogy۔ فن تعلیم۔ اِعــــلام: اعلان، ہدایت، اطلاع، نوٹس (Notice)۔ مکتبُ الاستعلامات: دفتر اطلاعات، خبر رساں ایجنسی، پریس ایجنسی، عـالِم: جاننے والا، واقف۔ ــ ب: سے واقف، آگاہ۔ــ: ماہر، صاحبِ نظر، دقیقہ شناس، مبصر نکتہ رس نقاد، صاحب ذوق (جمع علماء): عالم فاضل، عالم، متبحر عالم، علامہ، سائنس دان، عـالـم طبیعی: ماہر طبیعیات (Physicist)، طبیعی سائنسدان۔ العلماء المُختَصُّون: متخصص علماء، سپیشلسٹ علماء، ماہرین۔ عَالِمیّة: علمیت، علمی فضیلت، علم و فضل، تبحر علمی، عالم کا رتبہ، باعظمت، علم و فضل کا رتبہ جو تیونس کی جامع کبیر اور قاہرہ کی الاظہر کی طرف سے ڈپلومائے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ اَعْلَم: زیادہ جاننے والا، زیادہ عالم و فاضل۔ اللّٰہ اَعلم: اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ مَعْلُوم: جانا ہوا، مقررہ، دیا ہوا۔ معلوم، یقیناً، لازماً، قدرتی بات ہے، بے شک، ضرور، بالضرور، معلوم مقدار (علم حساب میں) المعلوم: فعل معروف۔ جمع مَعَالِیم: مقررہ رقم، مقررہ نرخ، مقررہ آمدنی، ٹیکس، محصول، فیس، رقم، خرچ، صرف، مصارف، خرچہ (عدالت)۔ معلومُ الحیوانات: ڈھور ڈنگر مال مویشی کا محصول۔ (جمع) معلومات: علم، معرفت، معلومات، ادراکات، انکشافات، دریافتیں، (عدالت کا) فیصلہ (Findings) معلوم حقائق، اطلاع امور معلومہ (Data): خبریں (News, tidings): مُعَلِّم: ٹیچر، انسٹرکٹر، کاریگر، استاد۔ مُعَلِّمُ الاعتراف توبہ کرانے یا اعتراف گناہ سننے والا پادری۔ مُعَلِّمہ: مُعَلِّم کا مونث۔ مُعَلَّم: سکھایا ہوا، پڑھایا ہوا، ہدایت دیا ہوا، تربیت دیا ہوا، سکول میں تعلیم دیا ہوا، مُعَلَّم علیہ: نشان زدہ۔ مُعَلَّم علیہ بالاحمر: جس پر سرخ پنسل سے نشان لگایا گیا ہو۔ مُتَعَلِّم: تعلیم یافتہ، کار آموز، پڑھا لکھا، پڑھنے والا، سیکھنے والا۔

علن: عَلَنَ ـِ وعَلُنَ ـُ وعَلِنَ ـَ عَلَنًا و عَلَانِيَةً و عُلُونًا و اعْتَلَنَ الامرُ: ظاہر ہونا، صفت عَالِن وعَلِن وعَلِين۔ عَلَّنَ الیہ الامرَ: کو پر ظاہر کرنا۔ عَالَنَ مُعَالَنَةً وعِلانًا العداوةَ وبالعداوة: کھلم کھلا دشمنی ظاہر کرنا۔ ــ و أعْلَنَ ہُ الامرَ وبالأمر: کو پر ظاہر کرنا۔ اِسْتَعْلَنَ الامرُ: ظاہر ہونا، ظاہر ہونے کے درپے ہونا۔ العَلَانِيَة (مص): کھلم کھلا، نشر واشاعت کہتے ہیں: رجُلٌ عَلَانِيَةٌ جمع عَلَانُون: جس کا معاملہ ظاہر ہوا۔ کھلم کھلا کام کرنے والا۔

العَلَانِی جمع علانِیُون: بمعنی رجلٌ علانیة۔ العُلْنَة: جو راز نہ چھپائے۔ الاعلان جمع اعلانات: اشتہار (خواہ اخباروں میں شائع ہو یا دیواروں پر لگایا جائے یا تقسیم کیا جائے۔)

عَلَنَ ـُ وعَلُنَ ـُ عَلانیةً: معلوم ہونا یا ہو جانا، واضح، یا ظاہر یا آشکار ہونا یا ہو جانا، بدیہی یا بیّن ہونا یا ہو جانا۔ عَالَنَ ہ ب: کے علم میں کوئی بات لانا، پر کا انکشاف کرنا، پر کو ظاہر کرنا، افشا کرنا۔ اَعْلَنَ ہ: کو واضح کرنا، کا انکشاف کرنا، کو ظاہر کرنا، کا اعلان کرنا، کی نشر و اشاعت کرنا، کو شائع کرنا، کے نفاذ کا اعلان کرنا، کا سرکاری طور پر باقاعدہ اعلان کرنا۔ ــــ اِلی ہ: کو صاف صاف کوئی بات بتانا۔ ــ أنَ: اعلان کرنا کہ ــ الی: کو سمن جاری کرنا۔ عن: کا نوٹس دینا۔ ــ عن: کا (اخبار میں) اشتہار دینا، کو (اخبار میں) مشتہر کرنا۔ ــ عــن: کو دکھانا، کو بتانا، ظاہر کرنا، کا اشارہ کرنا، کا راز افشا کرنا۔ اعلن الحرب علیہ: کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا۔ اعتلن بمعنی عَلَنَ: اِسْتَعْلَنَ بمعنی عَلَنَ نیز اِسْتَعْلَنَ ہ: کا انکشاف کرنے کی کوشش کرنا، کو ظاہر کرنا۔ عَلَنًا: کھلم کھلا، کھلے بندوں، صاف صاف، صاف گوئی سے، علی الاعلان۔ عَلَنی: کھلم کھلا، صاف، عام، عَلِن: کھلم کھلا، صاف واضح عام۔ علانیة: صاف گوئی، علی الاعلانیت۔ عَلَانیةً: بمعنی عَلَنًا: اِعلان جمع اعلانات: اشاعت، نفاذ کا اعلان، نفاذ، اظہار، انکشاف، باضابطہ اعلان، اعلان، بیان، نوٹس Notice، اشتہار۔ ــ عن: کیلئے اشتہار بازی، پوسٹر، چسپاں اشتہار، دیواری اشتہار، اٹھایا ہوا اشتہار۔ اعلان حضور: سمن۔ اعلان الحرب: اعلان جنگ۔ اعلان عدم الثقة بعدم اعتماد کا ووٹ۔ اعلانات مُبَوَّبَة: قسم وار اشتہارات classified advertisements۔ اعلانات ضَوئِیة: برقی اشارے۔ مُعْلِن: اعلان کرنے والا (اناؤنسر) صاحب تقریبات (Master of ceremonies) مُعْلَن الیہ: جسے بذریعہ سمن عدالت میں طلب کیا گیا ہو۔

علہ: ا۔ عَلِهَ ـَ عَلَهًا: منہمک ہونا، متحیر ہونا، خوفزدہ ہونا، قابل ملامت ہونا، گھبراہٹ میں آنا جانا۔ العَالِہ (ح): شتر مرغ۔ العَلِہ: متحیر ہو کر آنے جانے والا۔ العَلَہ: حزن۔ غم۔

۲۔ عَلِہَ ـَ عَلَہا بھوکا ہونا۔

۳۔ عَلِہَ ـَ عَلَہًا: بدفطرت ہونا۔ صفت عَلْہان م عَلْہی جمع عِلاہ و عَلاہَی: [illegible]

العَلَہ (مص) برائی۔ العَالِہ: ایک راستہ پر نہ چلنے والی عورت۔

علا: ا۔ عَلاَ ـُ عُلُوًّا الشیُ او النہارُ: (چیز کا) بلند ہونا، (دن) کا چڑھنا۔ ــ الرجُلَ: پر غالب ہونا۔ ــ ہُ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ ــ الامرَ ولہ: کی طاقت رکھنا، کو کر سکنا۔ صفت عالٍ لہ ــ المکانَ وبہ: پر چڑھنا۔ ــ بالامر: میں منفرد ہونا، کو کرنے کا قابل کرنا۔ ــ الدابةَ: جانور پر سوار ہونا۔ ــ قِرنَہ: ہمسر پر غالب آنا۔ ــ فی الارض: تکبر کرنا۔ ــ بہ: کو اونچا کرنا، بلند کرنا۔ ــ العینُ عن فلان: نگاہ کا کسی سے آگے بڑھ جانا۔ ــ فی المکارم: درجہ میں بلند ہونا۔ عَلِیَ ــ عَلاءً الشیُ اولنہارُ: چیز کا بلند ہونا۔ دن کا خاصہ چڑھ جانا۔ ــ فی المکام: درجہ میں بلند ہونا۔ عَلَّی الشیَ: پر چڑھنا کو اونچا کرنا۔ ــ المتاعَ عن الدابة: جانور سے سامان اتارنا۔ اللّٰہُ فلانًا: اللہ کا کسی کو بلند کرنا اور عالی مرتبہ بنانا۔ عَالَی الشیَ: چیز کو اونچا کرنا۔ ــ الشیَ وبہ: پر چڑھنا، کہتے ہیں عالِ عنی: مجھ سے دور رہو۔ اَعْلَی الشیَ: پر چڑھنا، کو اونچا کرنا۔ ــ المتاعَ عن الدابة: سامان کو جانور سے اتارنا۔ تَعَلَّی الرجُلُ: آہستہ آہستہ چڑھنا۔ ــ ت المرأةُ من مرضھا: عورت کا صحت یاب ہونا۔ تَعَالَی: بلند ہونا۔ ــ ت لمرأةُ من مرضھا: عورت کا صحت یاب ہونا۔ تعالَی۔ (فعل امر): آ جا آ۔ اِعْتَلَی الشیُ او النہار: چیز کا بلند ہونا، دن کا خوب چڑھ آنا۔ ــ الشیَ: پر چڑھنا۔ اِسْتَعْلَی النہارُ: دن کا چڑھ آنا۔ ــ ہُ: پر غالب ہونا۔ ــ الشیَ: پر چڑھنا۔ اِعْلَولَی الشیَ: پر چڑھنا۔ العالی (فا) رجُلٌ عالی الکعب: شریف، کہتے ہیں: اتیتہُ من عال: میں اوپر سے اس کے پاس آیا۔ العالیة جمع عالیات و عَوَالٍ: عالی کا مونث۔ نیزے کے اوپر کا حصہ یا نیزے کا نصف اعلیٰ۔ عالیةُ الشی: چیز کا بلند ترین حصہ۔ عالیة الوادی: وادی کا وہ حصہ جہاں سے پانی گرے۔ العوالی: نیزے، شہر کے آس پاس کے گاؤں۔ ان کی طرف نسبت عالیٌّ و عُلْوِی۔ عُلُ: اسم بمعنی فوق (اوپر)۔ کہتے ہیں۔ من عَلُ: جب معرفہ ہو تو ضم پر مبنی ہونے کی وجہ سے اور نکرہ ہونے کی صورت میں معرب آتا ہے۔ معنی اوپر سے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں: اتیتہ من علا: میں اس کے پاس اوپر سے آیا۔ العَلَاء و العَلَی: بلندی، شرافت۔ العَلاة جمع عَلَوات و عَلاً: نہائی، بھاری بھرکم اور اونچی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اونچی۔ عَلْوٌ و عُلُوٌّ و عِلْوٌ و عَلاوَة الشي: کی بلندی۔ کہتے ہیں: آخُذُه عَلْوًا: میں اسے زبردستی لےلوں گا۔ العِلاوَة جمع عَلاوَی و عَلاوِیّ: بوجھ لادنے کے بعد جو کچھ لٹکایا جائے۔ سر یا گردن کا اوپر کا حصہ۔ مِن کلّ شيٍ: ہر چیز کا زیادہ حصہ کہتے ہیں: أَعطیتك الف دینار و دینارًا عِلاوَةً: میں نے تمہیں ایک ہزار دینار دیے اور ایک دینار زائد دیا۔ العَلْیٰ و العَلایَةُ: بلند جگہ۔ العِلْیٰ: کہا جاتا ہے: هُم عِلْیُ القوم: وہ لوگ سردار القوم ہیں۔ العَلِيّ جمع عَلِیُّون و عِلْیَة: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک نام بلند، شریف، سخت، کہا جاتا ہے: هم عِلْیَة القوم: وہ لوگ قوم کے سردار اور شرفاء ہیں۔ العِلیّ: بلندی۔ العَلَوِيّ م عَلَوِیَّة: حضرت علیؓ کی طرف نسبت۔ العِلِّیّان: بلند آواز۔ العُلِّیَّة و العِلِّیَّة جمع عَلالِي: بالا خانہ۔ کہا جاتا ہے: هو من عُلِّیَّةِ قومه وعِلِّیَّتِهِم و عِلِّهُم و عُلِّهِم: وہ اپنی قوم میں رفعت اور شرف والا ہے۔ العِلِّیُّون: عِلّیٌّ کی جمع جنت اعلیٰ کا نام۔ وہ لوگ جو شہر کے اونچے مقامات پر رہتے ہیں۔ امیر اور شریف لوگوں کو اھل عِلّیین کہتے تھے اور پست درجے والوں سِفْلِیُّون۔ الاعلیٰ م عُلْیا جمع عُلیٰ: اسم تفضیل۔ زیادہ بلند۔ کہا جاتا ہے: هو اعلیٰ بهم عینًا: وہ ان کے حالات کا زیادہ صاحب ادراک ہے۔ العُلْیاء: ہر بلند جگہ، بلند کہا جاتا ہے: شفةٌ عُلْیا: اوپر کا ہونٹ۔ العَلْیاء: ہر بلند جگہ۔ بلند۔ (شفة عَلْیاء: اوپر کا ہونٹ)۔ پہاڑ کی چوٹی، آسمان۔ العِلْیان: بلند آواز ــــ و العَلْیان: موٹا اور لمبا۔ رجُلٌ علیان وامراة علیان: موٹا اور لمبا آدمی۔ موٹی اور لمبی عورت۔ المَعْلاة جمع مَعَالٍ: شرافت و بلندی۔ المُعَلّی: جوا کھیلنے کا ساتواں تیر۔ الحُروف المُسْتَعْلِیَة: خ، ص، ض، ط، ظ، غ و ق۔

۲۔ عَلَّی الکتابَ: کتاب کا عنوان لکھنا۔ العُلْیان: کتاب کا عنوان۔

۳۔ عَلْوَن عَلْوَنَةً و عَلْوانًا الکتابَ: خط پر پتہ لکھنا (خط پر مکتوب الیہ کا نام لکھنا)۔ عُلْوان الکتاب: سرنامہ۔

○ علا ـــُ عُلُوًّا: اونچا ہونا، بلند ہونا، اونچا اٹھنا، اٹھنا، چڑھنا، آواز کا بلند ہونا، سینہ کا چڑھنا اترنا۔ اوپر نیچے ہونا ــــ ٥/ ھ/ عن: سے اونچا یا لمبا ہونا یا بڑھنا، سے بہت اونچا ہونا ــــ ھ/ علی: سے زیادہ بلندی پر ہونا ــــ ھ: کے اوپر جڑنا، لگا ہونا، جڑا ہوا ہونا، سے بلند ہونا ــــ ٥/ ھ/ علی: سے بڑھ جانا، متجاوز ہونا، کیلئے بہت اونچا ہونا ــــ ٥/ علی: پر قابو پانا، کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، کو گھیرے میں لینا، کو کچل دینا ــــ ٥: کا بہتر حصہ لینا ــــ: اوپر کی طرف مڑنا ــــ ھ: کو ڈھانپنا، ڈھانکنا، پر پھیل جانا، پر چھا جانا۔ پر چڑھنا۔ ــــ ھ/ ٥: پر پڑنا، کو گرفت میں لینا۔ علا به: کو اونچا کرنا، بلند کرنا، کو بڑھانا، کی تعریف کے پل باندھنا، کو سرفراز کرنا، علت به السِنٌّ: بوڑھا ہو جانا۔ علا صوته ب: کو بلند آواز سے کہنا، چیخ اٹھنا، چیخ پکار کرنا۔ عَلِيَ ـَـ عَلاءً: اونچا ہونا، بلند ہونا، بازی لیجانا سبقت لے جانا، نمایاں ہونا عَلِيَ ـَـ عَلْیًا السطحَ: چھت پر چڑھنا۔ علا الاداةَ الصدأُ: پرزہ پر زنگ لگنا۔ علت وجهه صُفْرَةُ الاموات: اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ عَلَتْهُ السآمةُ: وہ تھکن سے چور ہو گیا، علت شفتیه رَغْوَةٌ: اس کے ہونٹوں پر جھاگ آ گئی۔ عَلّٰی ٥/ ھ: کو اونچا کرنا، بلند کرنا، کو سرفراز کرنا، کی حمد و ثنا کرنا۔ اَعْلیٰ: بمعنی عَلّٰی نیز اَعْلیٰ شانَهُ: پرزور دینا، کو بانس پر چڑھانا، کو ترقی دینا، کو آگے بڑھانا، بڑھانا، کا وقار اونچا کرنا۔ تعالیٰ: بلند ہونا، کو نچا، کا چرچا ہونا، بلند ہونا، سرفراز ہونا، صاحب جلال ہونا (اللہ تعالیٰ کا)۔ ــــ علی: اپنے آپ کو سے بلند سمجھنا، کو نظر حقارت سے دیکھنا۔ ــــ عن: سے دور رہنا۔ تعالیٰ: (یہاں) آؤ۔ ذرا نکلو تو، سامنے تو آؤ، آؤ چلیں، بڑھے چلو۔ اِعْتَلیٰ: اونچا ہونا، بلند ہونا۔ ــــ ھ: پر چڑھنا، کسی عہدے پر فائز ہونا۔ اِسْتَعْلیٰ علی: سے بلند ہونا، کا ماہر بننا، کا قبضہ لینا، کا مالک بن بیٹھنا، پر قابض ہونا، پر تصرف کرنا۔ عُلُوٌّ: بلندی، اونچائی، عظمت، بڑائی، شان و شوکت، جلال، سرفرازی، رفعت۔ عُلُوُّ الصوت: آواز کا حجم، زور آواز کی شدت۔ (Sound volume or intensity) عُلُوُّ الکعب: اعلیٰ منصب، نمایاں مقام۔ عُلْوِي: اوپر کا بالائی، آسمانی، مقدس، قدوسی۔ اِرادَة عُلْوِیة: اعلیٰ، ارادہ یا منشا عَلَوِي: اوپر کا بالائی، آسمانی، بہشتی، ملکوتی۔ اَلْعَلَوِیُّون: علوی، شمال غربی شام کے ساحلی علاقہ میں رہنے والے نصیریوں کا سرکاری نام عُلَّیٰ: بلندی، اونچائی، رفعت، سرفرازی۔ جلال، علوشان، جلالت قدر، بلند منصب، عَلیٰ: پر، کی چوٹی پر، (جگہ، منصب)؛ کے ذریعے، ہی، کی حالت میں کے انداز میں، کے قبضہ میں۔ کو، کی طرف، کیلئے، کے علاوہ، کے حساب میں، کے ذمے، کے مفاد کے خلاف، کے خلاف، کے باوجود، کے علی الرغم، کی بنا پر، کے باعث، کی سند سے، بسند، کی وجہ سے، پر، بذریعہ، کے ذریعے، کے مطابق، کے ذوق کے مطابق، کی رائے میں، کی پسند کے مطابق، حسب دلخواہ، کے دوران۔ مِن علی: اوپر سے، کی چوٹی سے، عَلیٰ اَنْ: بشرطیکہ، کی شرط پر، اگر چہ، ہر چند، باوجود یکہ، گو کہ۔ علی اَنَّ: لیکن، تاہم، مگر، دوسری طرف یہ، پھر بھی، تاہم، بایں ہمہ، علی اَنَّه: جیسے: جَنیٰ ثَمَراتِ الارض عَلیٰ انها نِعمةُ الآلهة: اس نے زمین کے پھلوں کی فصل کاٹی (اور انہیں قبول کیا) جیسے وہ دیوتاؤں کی طرف سے عطا کردہ نوازش و مہربانی ہوں۔ علی ظهر الخیل: گھوڑے کی پیٹھ پر، علی ظهر الباخرة: دخانی جہاز میں۔ السلام علیکم: تم پر سلامتی ہو۔ علی الرأس والعین: بڑی خوشی سے۔ علی رؤوس الأشهاد: کھلم کھلا، علی الاعلان، سب کی نظر کے سامنے۔ جلس علی النار: وہ آگ کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ علی یمینه: اس کے دائیں (جانب) علی کل حالٍ یا علی کُلٍّ: بہر حال علی الخصوص: خاص کر، بالخصوص، خصوصیت سے، خصوصاً۔ علی الاطلاق: مطلقاً، یقیناً واقعی، بلا پابندی، بلا استثناء، کسی پہلو سے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت حال میں۔ علی التقریب: تقریباً، قریب قریب، علی التَوالِي: لگاتار، مسلسل، پے در پے، بلا انقطاع ایک دوسرے کے بعد۔ علی ضوءِ یا علی نورٍ: کی روشنی میں۔ کان علی حقٍ یا کان علی الحق: صحیح راستہ پر ہونا، حق پر ہونا۔ کان علی الباطل او کان علی خطأ: غلط راستہ پر ہونا، غلطی پر ہونا۔ هو علی اَحسن ما یُرام: وہ اتنا ہی ٹھیک ٹھاک ہے جتنا تم اس کے لئے دعا کر سکتے ہو۔ هو علی شيءٍ من: وہ ایک...... رکھتا ہے۔ هو علی شيءٍ من الذکاء: وہ کافی سمجھ، ذہانت، عقل، فہم یا فراست رکھتا ہے۔ لیس هذا علی شيءٍ: اس میں کچھ نہیں، یہ بیکار، ناکارہ یا فضول ہے۔ لیس من هذا کُلِّهِ علی شيءٍ: یہ سب کچھ اس کے لئے غیر مانوس ہے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کان علی دین المسیح: وہ مسیحیت سے تعلق رکھنا۔ مسیحی ہونا۔ کان علی علمٍ ب: سے مطلع ہونا، واقف ہونا، کان علی انتظاره: کا انتظار کرنا۔ علی غیرِ شيءٍ: بلا وجہ۔ علی بصیرةٍ من الامر: معاملہ سے آگاہ، معاملہ کو جانتے ہوئے۔ علی غیر معرفةٍ منه: کے بارے میں نہ جانتے ہوئے، اس کے علم کے بغیر، نادانستہ طور پر۔ علیك ب (٥/ھ) ا...... لو: سے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

شوق فرمائیے، تناول فرمائیے، کو استعمال کیجئے۔ علیك بالصبر: تمہیں صبر (برداشت) کرنا ہوگا۔ عَلَيَّ بہ: کو میرے پاس لاؤ، کو مجھے دو۔ وہ میرے پاس ہونا چاہئے۔ علیہ أن: اس پر لازم، لازمی، واجب یا فرض ہے کہ...... یہ اس کا فرض ہے کہ، اسے چاہئے کہ، اس کو...... کرنا ہوگا۔ لاعلیك: پریشان نہ ہو۔ فکر نہ کرو۔ لاعلیہ: برانہ مانئے۔ یہ کچھ نہیں۔ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ماعلینا: اس کا کیا ہے! اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمیں اسے بھول جانا چاہئے! ما علیك من: آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ برانہ مانئے۔ اس کا کچھ خیال نہ کریں۔ ما علیہ ان: وہ پروا نہیں کرتا اگر...... اس کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں کہ...... علی حسابہ: کے خرچ پر۔ علیہ دین وہ مقروض ہے۔ ھو علی سِنِّہِ قرِیٌّ: وہ اپنے سالوں کو اچھی طرح جھیلتا ہے۔ عَلامَ: کس لئے؟ کیوں؟ استیقظ علی الاذان: وہ اذان سن کر اٹھ بیٹھا، جاگ گیا، اذان نے اسے جگا دیا۔ قیل علی لسانہ ما: خیال ہے کہ اس نے ایسی باتیں کیں جو۔ اس سے ایسے بیانات منسوب کئے گئے جو...... علی یدہ: کے ذریعے، اس کے ہاتھوں علی ذلك: اس طرح، یوں، اس لئے، چنانچہ، لہٰذا، بدیں وجہ، علی ما یُقالُ: جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے۔ علی حَسَبِ: کے مطابق، کے حسب حال، کے مناسب، پر اعتماد، بھروسہ، انحصار کرتے ہوئے، پر موقوف۔ علی طَوْع منہا: اس کی طرف سے اطاعت کے ساتھ، اس کی طرف سے مخالفت کے بغیر۔ علی عادتہ: اس کی عادت کے مطابق، جیسا کہ اس کا معمول (دستور) ہے۔ جیسا کہ اس کی عادت ہے۔ علی حینِ غَفْلَۃٍ: اچانک، یکا یک، غیر متوقع طور پر، بے خبری میں۔ علی عھدِ: کے عہد میں، کے زمانہ میں، کے وقتوں میں۔ الدولۃُ العلِیَّۃ: سلطنت عثمانیہ کا قدیم نام۔ عِلْیَۃُ الناس، علیۃ القوم: بالائی طبقہ، ممتاز لوگ، نمایاں لوگ، عُلِّیۃ و عِلِّیۃ: بالاخانہ، جمع عَلالی: عِلِّیون سب سے اوپر کا آسمان، بلندترین جگہیں۔ اھلُ العَلْیاء: بلندترین سماجی حیثیت کے لوگ۔ عَلاوَۃ: اضافہ، بیشی، فالتو، مزید، الاؤنس، قیمتیں کم کرنے کیلئے امداد (Subsidy)۔ علاوَۃً علی: مزید برآں، علاوہ ازیں۔ اَعْلَی م عُلْیَا جمع عُلَی و اَعَالٍ: بلندتر، بلندترین، بالائی، اوپر کا، سب سے اوپر کا، بلندترین۔ اَعَالٍ: کسی چیز کا بلندترین حصہ۔ پہاڑ کی چوٹیاں، پہاڑیاں، بلند جگہیں۔ اَعْلاہ: مزید اوپر، اوپر، بالا، مذکور اعلاہ: مذکورہ بالا۔ مؤتمر (مُنْعَقِدٌ) علی اَعْلَی مُسْتَوَیً: اعلیٰ سطح کی کانفرنس۔ Top level conference۔ بَاعْلَی صوتٍ: اونچی آواز سے، کی انتہائی بلند آواز میں۔ سفینۃ اعالی البحار: سمندری جہاز۔ آعالِیُ النیل: دریائے نیل کا بالائی راستہ۔ معالی الأمور: شرافت کی باتیں (امور) صاحب المعالی یامَعَالِیْہِ: فضیلت مآب (گورنر یا سفیر کا لقب)۔ معالی الوزیر: فضیلت مآب وزیر۔ His Excellency the minister (کابینہ کے وزراء کا لقب)۔ تَعْلِیَۃ: بلندی، ارتفاع، بڑھانا، اٹھانا، بلند کرنا، بہبود، سرفرازی (آواز) بلند کرنا۔ اِعلاء: بلندی، بڑھانا، بہبود، اونچا کرنا، اعلاء شان الشی: کو تقویت دینا، ترقی دینا، ترقی، برتری۔ اعتلاء: (تخت) نشینی، کابینہ کے وزیر کا تقرر۔ استعلاء: برتری، تفوق۔ عَالٍ: بلند، لمبا، اونچا، سخت (آواز) پُرجلال، بلند مرتبہ، بلند حیثیت، بہت عمدہ، اعلیٰ، درجہ اول کا، نمایاں، اونچی قسم کا، ضغط عال: بلند وولٹیج (High voltage)۔ بلند تناؤ، تواتر عالٍ: بلند تعدد امواج high frequency۔ عَالِیَۃُ: اوپر، مذکورہ بالا۔ مذکور بعَالِیہِ: مذکورہ بالا۔ عالُ العَال: بہت عمدہ۔ اعلیٰ۔ اعلیٰ قسم کا۔ اے ون (مال تجارت)۔ مُتَعال: اونچا، بلند، سرفراز، گونجتا ہوا، بجتا ہوا۔ المُتَعَالِی: ہستی برتر، خدائے برتر، خدا تعالیٰ (اللہ تعالیٰ کی ایک صفت)۔

علی: عَلَی ـِ عَلْیًا و عُلِیًّا السطحَ: چھت پر چڑھنا۔ العَلْی و العِلْی والعُلْیا والعَلْیا والعِلْیان والعُلْیان والعَلایَۃ والعِلْیَۃ والعَلِی والعِلِیّ: (مادہ ع ل و میں دیکھو)۔ علی: حرف جر درج ذیل معانی کے لئے آتا ہے۔

۱۔ استعلاء جیسے حُمِلَ علی الدابّۃ: کو جانور پر لادا گیا۔

۲۔ مصاحبت جیسے: بذل المالَ علی فقرہ: اس نے تنگدستی کے باوجود مال کو خرچ کیا۔

۳۔ مجاوزت بمعنی (عن) جیسے رضی علیہ بمعنی رَضِیَ عنہ: وہ اس سے راضی ہوا۔

۴۔ ظرفیت بمعنی (فی) جیسے دخل المدینۃ علی حین غفلۃ: وہ شہر میں غفلت کے وقت داخل ہوا۔

۵۔ تعلیل جیسے عَلامَ تضربنی: مجھے کیوں مارتے ہو۔

۶۔ موافقت باء جیسے اِرْکَبْ عَلَی اِسمِ اللّٰہ: اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ۔

۷۔ استدراک جیسے عَلَی اَنَّ قربَ الدار خیرٌ مِن البُعلد: لیکن گھر کا قرب دوری سے بہتر ہے۔

۸۔ فوق کے معنی میں اسم ہو کر مستعمل ہوتا ہے، جبکہ من کے بعد آئے جیسے: اقام من علی جناح الھیکل: وہ ہیکل کے بازو پر کھڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ عَلَيَّ کذا وبکذا: مجھے اتنا دو۔ عَلَیك زیدًا: زید کے ساتھ رہو۔ علیك بکذا: فلاں چیز کو لازم پکڑو۔ اس صورت میں یہ اسم فعل ہوتا ہے۔

⭘: (ع ل و کے ساتھ پہلے ہی اوپر یہ مادہ (ع ل ی) دیا جا چکا ہے)۔

عمّ: ۱۔ عَمَّ ـُ عُمُومًا الشیُّ: عام ہونا۔ ـــ المطرُ الارضَ: بارش کا تمام زمین پر برسنا۔ ـــ القومَ بالعطیّۃ: عطیہ میں سب کو شامل کرنا۔ عَمَّمَ: عام کرنا۔ اِعْتَمَّ الشابُ: نوجوان لمبا ہو گیا۔ العَام (فا): عام، سب کو شامل ہونے والا (خاص کا مقابل)۔ العَامَّۃ جمع عَوَامّ: عام کا مونث۔ عامَّۃُ الناس: عام لوگ۔ کہا جاتا ہے۔ جَاءَ القومُ عامَّۃً: ساری قوم آئی۔ العَمّ: کثیر جماعت۔ ـــ والعُمّ: لمبے لمبے کھجور کے پیڑ۔ العَمَّۃ جمع عَمَّات: اسم مرۃ۔ رجُلٌ عُمِّیّ: عام مرد۔ العَمَم: کثرت، اجتماع، عامَّۃ کا اسم جمع (خاصۃ کا مقابل) ہر شے (معاملہ) کا عام و شامل، کہا جاتا ہے: استوی فلانٌ علی عَمَمِہِ: فلاں شخص اپنے تمام جسم، جوانی اور مال کا مالک ہوا۔ رجُلٌ عَمَمٌ: کامل عقل اور خیر والا۔ العُمُم: جسم، جوانی اور مال وغیرہ کا کمال۔ العِمَامَۃ: قیامت، قحط۔ العُمُوم (مص): عمومیت، شمولیت، نسبت کیلئے عمومی آتا ہے۔ العَمِیم جمع عُمُم ہر اکٹھی اور بہت چیز، کہتے ہیں: نبت عمیم: کثیر تعداد کے اکٹھے پودے، قوم کا خالص، ہر کامل چیز۔ العَمِیمَۃُ من النساء: ج عُمّ: پورے قد کی لمبی عورت۔ نخلۃٌ عمیمۃٌ: لمبا درخت خرما۔ الأَعَمّ: اسم تفضیل۔ کثیر جماعت، موٹا المِعَمّ: صاحب خیر، فیض عام والا۔

۲۔ عَمَّ ـُ عُمُومَۃً: چچا بننا۔ اَعَمَّ: معزز چچوں والا ہونا۔ تَعَمَّمَہٗ: کو چچا کہہ کر پکارنا۔ اِسْتَعَمَّہٗ: کو چچا بنانا۔ العَمّ جمع عُمُومَۃ و اَعمام و اَعُمّ: چچا، نسبت کیلئے عَمِیّ آتا ہے۔ بعض مولدین کے نزدیک شوہر کے باپ اور بیوی کے باپ کی کنیت عم ہے۔ عورت اپنے شوہر کو ابن عمی کہتی ہے اور مرد اپنی بیوی کو ابنۃ عمی کہتا ہے۔ العَمَّۃ جمع عَمَّات: باپ کی بہن، پھوپھی۔ المُعِمّ و المُعَمّ: معزز چچوں والا۔ بہت چچوں والا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۳۔ عَمَّ عَمًّا رأسَهُ: کے سر پر پگڑی باندھی جانا۔ عَمَّمَ ہُ: کو پگڑی پہنانا۔ ـــ ہُ الامر: کو معاملہ سپرد کرنا۔ عُمِّمَ رأسُهُ: کے سر پر پگڑی باندھی جانا۔ ـــ الرجُلُ: کو سردار بنایا جانا۔ تَعَمَّمَ و اِعْتَمَّ و اِسْتَعَمَّ: پگڑی پہننا، کہا جاتا ہے: تعممت الآکام بالنبت: ٹیلوں پر نباتات پگڑی کی طرح ظاہر ہوئی۔ العِمَّة: پگڑی باندھنے کی ہیئت۔ العِمامة جمع عَمَائِم و عِمَام: پگڑی، خود کا وہ حصہ جو سر کے برابر بنا کر ٹوپی کے نیچے پہنا جاتا ہے۔ کہتے ہیں: ارخی عِمامتَهُ: وہ خوش حال ہو گیا۔ المُعَمَّم: وہ سردار جس کو قوم نے مقتدا مان لیا ہو۔

۵ عَمَّ: عَمَّ ـــ عُمُومًا: عام ہونا یا ہو جانا، ہمہ گیر یا عالمگیر ہونا یا ہو جانا۔ مشترکہ یا مشترکہ ہونا یا ہو جانا، رائج یا مروج ہونا یا ہو جانا، قابل فہم یا قابل شمول ہونا یا ہو جانا، سب کو شامل ہونا یا ہو جانا، پھیلنا، کا رواج ہونا۔ ـــ ہُ: پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کر لینا، میں سرایت کرنا، میں رچ بس جانا۔ ـــ ہُ: پر پوری طرح پھیل جانا، پہنچ جانا، تک پھیلا ہوا ہونا، پر پھیلا ہوا یا منتشر ہونا یا غالب ہونا۔ عَمَّتْ البَلْوىٰ بہ: یہ ایک عام ضرورت بن چکی ہے۔ عَمَّمَ ہُ: کو رائج کرنا، ترویج دینا، عمومی رواج دینا، کو کلی بنانا، عام اصولی قرار دے لینا، سبھی کو لپیٹ میں لے لینا، کو ہر جگہ پھیلانا، کو ہمہ گیر اصول بنا لینا یا سمجھنا، کو مقبول کرنا، رواج دینا، کو جمہوری بنانا، کو ہر جگہ سہل الحصول یا قابل حصول بنانا، کو عام پبلک کے لئے کھلا کرنا، کو دعوت عام بنانا، کو ہر جگہ رائج کرنا، ـــ ہُ: کو پگڑی پہنانا۔ تَعَمَّمَ: پگڑی باندھنا یا پہننا۔ اِعْتَمَّ بمعنی تَعَمَّمَ۔ عَمّ جمع عُمُوم و اعمام: چچا، تایا۔ ابنُ العم: چچا یا تایا کا بیٹا، چچیرا یا پھپھیرا بھائی۔ بنت العم: چچا یا تایا کی بیٹی۔ عَمَّة جمع عَمّات: پھوپھی، ممانی، عِمَّة: پگڑی۔ عَمِيم: عام، ہمہ گیر، عالمگیر۔ مشترک، مشترکہ، رائج، مروجہ، سب کے لئے قابل فہم، قابل شمول، عُمُوم: عام بات، قاعدہ، کلیہ، عمومیت، ہمہ گیری، عالمگیری، (کا) زور، (کا) جگہ پر پھیلا ہونا، کل، مجموعی، مکمل، ہمہ گیر، مجموعیت جملہ، مجموعہ۔ العُمُوم (عام) لوگ، سبھی لوگ۔ عُمُومًا: عام طور پر، عموماً، بالعموم۔ عُمُومًا ـــ خصوصًا: بالعموم، بالخصوص۔ على العموم: عام طور پر، عموماً، بالعموم، بوجه العموم: عام طور پر بالعموم، عموماً۔ فی عُمُوم القطر: ملک بھر میں مجلسُ العُموم: دار العوام House of Commons۔ جامعة

عموم العُمّال: مزدوروں کا وفاق عام general federation of labour۔ ادارة عموم الجمارك: کسٹمز اور تامینی محصولوں کی عام انتظامیہ General administration of customs and trariffs۔ دیوان عموم المَصْلَحَة: صدر دفتر انتظامیہ، چیف ایڈمنسٹریشن آفس۔ Administration headquarters۔ عموم المالية: مالیات کی عام انتظامیہ General administration of finances۔ تفتیش عموم الري: نظارت آبپاشی۔ مفتش عموم النیل الجنوبی: جنوبی نیل کا انسپکٹر جنرل۔ عمومی: عام، عوامی، ہمہ گیر، عالمگیر۔ بلا استثناء، مشترک، مشترکہ۔ ریاستی، شہری، عوامی۔ جمعية عمومية: جنرل اسمبلی، پورا اجلاس (Plenary session)۔ دار الكتب العمومية: پبلک لائبریری۔ اشغال عمومية: پبلک ورکس الصندوق العمومی: عوامی خزانہ Public treasure۔ عِمامة جمع عَمائِم: پگڑی۔ تعميم: دیکھو عَمَّمَ۔ عام: عوامی، عام، ہمہ گیر، عالم گیر۔ بلا استثناء، رائج، مروجہ، مشترک، مشترکہ۔ الامن العام: عوام کی حفاظت Public Security۔ مدير عام: ڈائریکٹر جنرل، جنرل منیجر۔ الرأي العام: رائے عامہ Public opinion۔ المصلحة العامة یا الصالح العام: بہبودی عوام، بہبود عامہ Public welfare، الخاص والعام یا العام والخاص: سب لوگ۔ العوام: عام لوگ، عوام۔ عامي: مشترک، مشترکہ، بازاری، سوقیانہ، ادنی طبقے کا، معمولی، مقبول عام، عوامی، معمولی شخص، گلی کوچہ کا آدمی۔ العامية: عوامی زبان، عامیانہ، عام بول چال، غیر ادبی، روزمرہ کی، بے تکلفانہ بول چال، مُعَمَّم: جو پگڑی پہنے ہوئے ہو۔ پگڑی والا۔ عماز یکھیے عن ما۔

عمب: العمبر: العَنْبَر: عنبر۔

عمت: ۱۔ عَمَتَ ـِ عَمْتًا وعَمَّتَ الصوف: اون کی پونی بنانا۔ العَمِيتَة جمع عَمَائِت و عُمُت و أَعْمِتَة: اون کی پونی۔

۲۔ عَمَتَ ہُ: کو مغلوب کرنا، کو اس کے مقصد سے ہٹانا۔

۳۔ عَمَتَ ہُ: کو ڈنڈا لکڑی سے مارنا۔ العَمِيت جمع عَمَامِيت: مدہوش، جو چلنے میں کسی طرف ہدایت نہ پا سکے۔

۴۔ رجل عَمِيت: ظریف، بہادر، عالم زیرک۔ العِمِّيت جمع عَمامِيت: نگران۔ زیرک بذلہ سنج۔

عمج: عَمَجَ ـِ عَمْجًا: پانی میں تیرنا۔ ـــ فی سیره: دوڑنا۔ ـــ وتعمَّجَ السیل او الحية: سیلاب یا سانپ کا پیچدار ہونا۔ العَمَج والعُمَّج والعَوْمَج: سانپ۔

عمد: ۱۔ عَمَدَ ـِ عَمْدًا السَّقْفَ: چھت میں ستون لگانا، چھت کو مضبوط کرنا، عَمِدَ ـــ عَمَدًا به: کے ساتھ لگا رہنا۔ اِعْمَدَ الشیءَ: کے نیچے ستون لگانا۔ اِعْتَمَدَ الحائطَ وعلی الحائط: دیوار سے ٹیک لگانا۔ ـــ ہُ واعتمد علیه: پر بھروسہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ اعتمد لیلتَهُ: وہ رات کو سوار ہو کر گیا۔ اِنْعَمَدَ الشيءُ: ستون کے بل کھڑا ہونا کہا جاتا ہے۔ عَمَدَهُ فَانْعَمَد: اس نے اسے مضبوط کیا تو وہ مضبوط ہو گیا۔ العامد: (ھ) عمود لیلة عامِدَة: لمبی رات۔ العُمْدَة جمع عُمَد: جس پر ٹیک لگائی جائے۔ جس پر بھروسہ کیا جائے کہا جاتا ہے: انت عُمْدتنا فی الشدائد: یعنی مصائب و سختیوں میں ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تجھے ہی سہارا بناتے ہیں۔ لشکر کا پیغامبر۔ العُمْدُ والعُمْدانی: کامل تر نوجوان۔ العِماد جمع عَمَد و عُمُد: جس کا سہارا لیا جائے۔ لشکر کا پیغامبر۔ (واحد عِمادة): بلند عمارتیں۔ اهل العِماد: بلند و بالا عمارتوں والے، کہا جاتا ہے: فلانٌ طویل العِماد: اس کا مکان زائروں کے لئے علامت ہے۔ هو رفیع العِماد: وہ شریف ہے۔ العَمُود جمع أَعْمِدَة وعَمَد وعُمُد: ستون، سردار، لشکر کا پیغامبر، جگر کو سیراب کرنے والی رگ کان کا بڑا حصہ۔ العمود والخط العمودی (عند المهندسين): وہ خط جو دوسرے خط پر واقع ہو۔ جس کے دونوں طرف دو برابر زاویے نکلیں۔ عَمُودُ البَطْن: پیٹھ، کہا جاتا ہے ضربه علی عَمُود بَطْنه: اس نے اس کی پیٹھ پر مارا۔ عَمُودُ المیزان: ترازو کی ڈنڈی۔ عَمُودُ الصبح: صبح کی روشنی۔ عَمُودُ النَّسَب: جو خط مستقیم پر ہو۔ کہا جاتا ہے: استقاموا علی عمود رأیهم: وہ ٹھوس رائے پر جمے رہے۔ اهلُ العَمُود و اهلُ العُمُد: خانہ بدوش لوگ۔ العَمِيد: وہ مریض جو بیٹھنے کی قوت نہ رکھتا ہو۔ عَمِيدُ القوم: قوم کا سردار جمع عُمَداء عمید الامر: قوام۔

۲۔ عَمَدَ ـِ عَمْدًا للشيء والی الشيء: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ الی الرجُل: کے پاس جانا۔ تَعَمَّدَ الامرَ: کا ارادہ کرنا۔ العَمْد (مص) کہا جاتا ہے۔ فعله عَمْدًا و عن عَمْدٍ: وہ کام اس نے ارادۃً کیا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اتفاقیہ طور پر نہیں۔ فعله عَمْدَ عينٍ وعَمْدًا على عينٍ: اس نے وہ کام کوشش اور یقین سے کیا۔

۳۔ عَمَدَ ـِ عَمْدًا الشيئَ: کو گرانا۔ ـــ هُ المرضُ او الامـــرُ: بیماری یا کام کا کسی کو دو بلا کرنا اور تکلیف پہنچانا۔ عَمِدَ ـَ عَمَدًا فلانٌ: دردمند ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ عَمَدني الامرُ فَعَمِدْتُ: معاملہ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں نے تکلیف اٹھائی۔ العَمُود: سخت غمگین، سخت غم زدہ۔ العَمِيد: جمع عُمَداء: سخت غمزدہ۔ وہ شخص جس کو عشق نے شکستہ خاطر کر دیا ہو۔ عَمِيدُ الوجع: درد کا مقام، درد کی جگہ۔

۴۔ عَمَدَ ـِ عَمْدًا هُ: کو ستون سے مارنا۔ عَمِدَ ـَ عَمَدًا عليه: پر غضبناک ہونا۔ العَمُود جمع اَعْمِدَة و عَمَد و عُمُد: لوہے کا ڈنڈا۔

۵۔ عَمَدَ ـــ عَمْدًا و عَمَّدَ الولدَ: بچہ کو بپتسمہ دینا۔ تَعَمَّدَ و اعْتَمَدَ: بپتسمہ لینا۔ العماد: بپتسمہ۔ المعمودية: بپتسمہ۔ مسیحی دین کی پہلی رسم اور نصرانیت کا پہلا دروازہ جس میں بچے اور وغیرہ کو باپ بیٹے اور روح القدس کا نام لیکر پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ سریانی لفظ ہے یا عَمَدَ بمعنی بھگو دینا سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے مولد ہے اور عربی زبان میں بعد میں رائج ہوا تھا۔

۶۔ عَمِدَ ـَ عَمَدًا الثرى: بارش کا مٹی کو تر کرنا۔ عَمَّدَ السيلَ: بہتے پانی کو بند لگا کر روکنا اور جمع کرنا۔ العَمِد: وہ جگہ جس کو بارش نے بھگو دیا ہو۔ کہا جاتا ہے۔ هـو عَمِدُ الثرى: وہ بڑا فیاض ہے۔

۷۔ عَمِدَ ـَ عَمَدًا منه: پر تعجب کرنا، اس سے ابوجہل کا قول ہے: اَعْمَدُ مِن سيِّدٍ قتلهٔ قومه: مجھے اس سردار پر تعجب ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا بلکہ اس کا معنی ہے: کیا وہ شخص اس سردار پر سبقت لے گیا، جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا۔

○ عَمَدَ ـِ عَمْدًا هـ: کو اٹھائے رکھنا، کا سہارا ہونا، کا بوجھ اٹھانا، کو تھامے رکھنا، کی پشتہ بندی کرنا۔ ـــ هُ / الى / ل: کا ارادہ ہونا، غرض ہونا، مقصد ہونا، کے پاس جانا۔ ـ الى / ل: کے قریب ہونا، کے پاس آنا، کے نزدیک جانا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑہ اٹھانا، کو کرنے لگنا، کو کرتے رہنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا، پر توجہ کرنا، کو شروع کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کا رخ کرنا، کا آغاز کرنا۔ ـــ الى: کی طرف توجہ کرنا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا۔ عَمَدَ ـِ عَمْدًا هُ: کو بپتسمہ دینا، عیسائی بنانا۔ عَمَّدَه: کو بپتسمہ دینا کو عیسائی بنانا، کو اصطباغ ... اَعْمَدَ هـ: کا بوجھ اٹھانا، کا سہارا ہونا، کا بوجھ اٹھانا، کو تھامے رکھنا، کا پشتہ ہونا۔ ـــ ہ: کو بپتسمہ دینا، اصطباغ دینا۔ تَعَمَّدَ ہ: کا ارادہ ہونا، غرض یا مقصد ہونا، کو جان بوجھ کر کرنا، کو ارادۃً کرنا، کے قریب ہونا، کے پاس آنا، کے نزدیک جانا، اس طرح کہ دل میں ایک واضح مقصد ہو۔ ـــ ہ: کو دوسروں میں سے کسی کام کیلئے چن لینا۔ ـــ ہ: کی تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ ـ: اصطباغ لینا، بپتسمہ لینا۔ ماتعمدها باهانة: اس کے دل میں اس کی توہین کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ اس کی توہین کرنے پر تلا ہوا نہیں تھا۔ اِعْتَمَدَ بمعنی تَعَمَّدَ نیز اِعْتَمَدَ على: کا سہارا لینا۔ ـــ ہ / ہ / على: پر تکیہ کرنا، پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ ـــ ہ / على: کو بطور بنیاد استعمال کرنا۔ ـــ ہ: سے کام لینا، کو استعمال کرنا، صرف کرنا، کو کام میں لانا، کو لگانا (جیسے مرہم لگانا، پاؤڈر لگانا) کو مستحکم کرنا، پکا کرنا، کی منظوری دینا، کی اجازت دینا، کا اختیار دینا۔ ـ ل ہ: کو کچھ قرض دینا، ادھار دینا، عاریۃً دینا۔ عَمْـد: ارادہ، مقصد، غرض، نیت، منشا، پہلے ہی سوچ سمجھ لینا، خودرائی، خودسری، ضد۔ عَمْدًا: قصدًا، جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ، عمدًا، ضد سے، خودسری سے، سوچے سمجھے ہوئے، منصوبہ کے مطابق۔ عَمْدِی: ارادی۔ عمدًا: بالارادہ، سوچا سمجھا ہوا، دیدہ دانستہ، قصدًا کیا ہوا۔ عُمْدَة: سہارا، پشت پناہ، آسرا، پیل پایہ، اصلی موضوع، بڑا مسئلہ، بنیادی مسئلہ جمع عُمَد: گاؤں کا نمبردار، کسی چھوٹی آبادی کا بڑا مجسٹریٹ، میئر (Mayor) صدر بلدیہ۔ عِماد جمع عُمُد: سہارا، آسرا، دیوار گیری، پشتہ، اڑواڑ، کھمبا، ستون، عِماد: بپتسمہ، اصطباغ۔ عَمِيد جمع عُمَداء: سہارا، آسرا، سربراہ، سردار، (یونیورسٹی میں کسی شعبہ تعلیم کا) صدر، (کسی ثانوی سکول کا) پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، ڈائریکٹر (ڈپلومیٹک کور کا)، صدر۔ ہائی کمشنر (نیز العميد السامي: ہائی کمشنر)، ریذیڈنٹ جنرل، میجر، لیفٹیننٹ کمانڈر، کمانڈنگ جنرل، لیفٹیننٹ کرنل، عميد ثان: ایڈجوائنٹ میجر، عميدة (طالبات کے ثانوی سکول کی) پرنسپل، ہیڈ مسٹریس، ڈائریکٹرس، عَمُود جمع اَعْمِدَة و عُمُد: جھنڈے کا کھمبا یا ستون، کھمبا، سہارا، آسرا، پیل پایہ، پشتہ، لیمپ کا کھمبا، (ٹیلیفون ٹیلیگراف کا) کھمبا، کالم۔ (اخباری) کالم۔ العمود الشوكي یا العمود الفقري: ریڑھ۔ عامود جمع عواميد بمعنی عَمُود عامود القيادة: سٹیئرنگ کالم، سٹیئرنگ میکانزم۔ عمودی: ستون دار، کھمبے جیسا، عمودی: [illegible] (Perpendicular) [illegible] (Vertical)

عمودية: پہلی کو پٹر، یوحنا المعمدان: بپتسمہ دینے والا یوحنا۔ تعميد: بپتسمہ۔ اصطباغ، نام دکھائی۔ مُتَعَمَّد: جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ، سوچے سمجھے ہوئے منصوبہ کے مطابق۔ اعتماد على: پر بھروسہ، دارومدار، انحصار۔ آسرا، سہارا، تصدیق، توثیق، منظوری: اجازت، اختیار۔ (سفارتی نمائندوں کو) بھیجنا، مختار کرنا، جمع اعتمادات: قرض، ادھار۔ الاعتماد على النفس: خوداعتمادی کتب الاعتماد یا اوراق الاعتـــماد: (سفارتی نمائندوں کے) کاغذات نمائندگی۔ اعتماد اضافي: اضافی قرض، مُعْتَمَد: قابل اعتماد، معتبر، بھروسے کے لائق، سہارا، بھروسہ کی چیز، منظور شدہ، مختار امور، تسلیم شدہ، باقاعدہ مختار، کمشنر، با اختیار کارندہ، گماشتہ، کارکن، مقیم، سفارتی نمائندہ، ایلچی، قاصد، نمائندہ، روسی سرکاری محکمے کا افسر Comnissar، افسر محکمہ، صدر یا اہلکار (Commissary)۔ المعتمد السامي: ہائی کمشنر۔ معتمد قنصلي: قنصل کا ایجنٹ Consular agent۔ مُعْتَمَدِيَّة: چھوٹے درجے کا سفارت خانہ (Legation)

عمر: ا۔ عَمَرَ ـُ عَمْرًا الدارَ: گھر تعمیر کرنا۔ اس کا اسم عِمارة ہے۔ ـ المنزلُ باهله: گھر کا گھر والوں سے آباد ہونا۔ ـــ المنزلَ: گھر میں سکونت اختیار کرنا۔ صفت مفعولی: مَعْمُور۔ ـــ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـ عِمارةَ اللّٰهِ منزلهٔ: اللہ کا کے گھر کو آباد کرنا۔ ـــ ـُ عُمُورًا و عَمارةً و عُمْرانًا الرجلُ بيتَهُ: آدمی کا اپنے گھر میں رہنا۔ ـ و عَمُرَ ـُ و عَمِرَ ـَ عَمارةً المالُ: مال کا بہت ہونا۔ عَمَّرَ المنزلَ: گھر کو آباد کرنا۔ الثوبَ: کپڑے کو اچھا بننا۔ اَعْمَرَ المنزلَ: گھر کو آباد کرنا۔ ـ هُ المكانَ: جگہ کسی کو آباد کرنے کیلئے دے دینا۔ ـ الارضَ: زمین کو آباد پانا۔ ـ عليه: کو مالدار بنانا۔ اِعْتَمَرَ المكانَ: کسی جگہ پر جانا، اس کی زیارت کرنا، کہا جاتا ہے۔ جاء فلانٌ مُعْتَمِرًا: فلاں زیارت کیلئے آیا۔ اتخذنا ناديا نعتمرهٔ: ہم نے بیٹھنے کے لئے کلب بنالی ہے۔ اِسْتَعْمَرَهُ في المكان: کو میں آباد کرنا۔ جیسے اِسْتَعْمَرَ اللّٰهُ عباده في الارض: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زمین میں آباد ہونے کے لئے کہا۔ ـــ ت دولةٌ بلادَ غيرها استعمارًا: ایک ریاست نے دوسری ریاست کو اپنی کالونی بنالیا۔ پہلی ریاست مستعمرة جمع مستعمرات کہلاتی ہے۔ جبکہ اس طرح دوسرے کے ملک کو اپنی کالونی بنانے والے کو

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مُسْتَعْمَر جمع مُستعمِرون کہتے ہیں۔ مُسْتَعْمَرة: کالونی، وہ ملک جس پر کسی دوسرے ملک نے قبضہ کر کے وہاں حکومت قائم کرلی ہو۔ العَامِر (فا) جمع عُمَّار م عَامِرَة جمع عَوامِر: گھر کا رہنے والا، مکان عامِرٌ: آباد جگہ۔ کہتے ہیں: تـرکتهُمْ عامرین بمکان کذا: میں نے ان کو فلاں جگہ آباد چھوڑا۔ عَوامِرُ البیوت: سانپ واحد عـامِر وعامِرة ہے۔ العُمْرَة جمع عُمَر و عُمُرات: آباد جگہ کا ارادہ کرنا۔ ـــ شرعًا: ایسے مخصوص کام جو حج اصغر کہلاتے ہیں یعنی احرام، طواف، صفا ومروہ کا طواف اور سر منڈانا۔ العُمْران: آبادی، (سرگرمی، دوڑ دھوپ کی زندگی، پھلنا پھولنا، پنپنا، فروغ پانا (کسی ملک کا) گنجان آباد ہونا اور فروغ پانا۔ تہذیب، تمدن، ثقافت، عمارت)۔ العَمَارَة: بڑا محلہ، قبیلہ، جنگی جہازوں کا بیڑہ۔ العِمَارة (مص): جس سے جگہ کی آبادی ہو۔ العُمَارَة: عمارت بنانے کی مزدوری۔ العَمَّار: مبالغہ کا صیغہ۔ العُمَّار: عامر کی جمع، وہ جنّات جو مکانوں میں رہتے ہیں۔ مکانٌ عَمِيرٌ: آباد جگہ۔ ثوبٌ عمیر: گاڑھا کپڑا۔ العَمِيـرَة جمع عَمَائِرُ: بڑا قبیلہ، شہد کا چھتہ۔ الاستعمار (مص): ایک ریاست کا دوسری ریاست کا یا اس کے کچھ حصے کا مالک بن بیٹھنا۔ المَعْمَر: آباد جگہ جہاں لوگوں کو پانی اور گھاس کی فراوانی ہو۔ المِعْمارِیّ جمع مِعْمارِیّة: راج۔ معمار۔ المُسْتَعْمَرَة: نوآبادی۔

۲۔ عَمَرَ ـُ عَمْرًا اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو باقی رکھنا۔ ـــ ـُ عُمُورًا و عَمَارَةً و عُمْرَانَاتُهُ کذا: کو میں نے اپنی یا اس کی عمر بھر کے لئے دیدیا۔ عُمُرًا و عَمْرًا و عَمَارَةً و عَمِرَ ـَ عَمَرًا و عَمْرًا و عَمَارَةً: لمبی عمر پانا، طویل عرصہ زندہ رہنا۔ عَمَّرَهُ ارضًا: کو عمر بھر کے لئے دے دینا۔ ـــ الرجُلُ: لمبی زندگی پانا، لمبا زمانہ زندہ رہنا۔ ـــ هُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو زندہ رکھنا۔ آپ کہتے ہیں: أَعْمِرُكَ اللّٰهَ ان تفعل کذا: میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ کام عمر بھر کرتے رہنا۔ أعْمَرَهُ أرْضًا: زمین کو کسی کو عمر بھر کے لئے دینا۔ العَمْر جمع أعمار: زندگی۔ العُمْر والعُمُر: زندگی، طویل زندگی، عربوں کے ہاں عمر کا اندازہ چالیس سال لگایا جاتا تھا۔ العَمَار: پھول جن سے شراب کی محفل کو آراستہ کرتے ہیں۔ سلام۔ العَمَارَة: پھولوں کا دستہ جو بادشاہ کو سلام کرتے وقت پیش کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں (عَمَّرَكَ اللّٰه)۔ العَمَّار: مرنے تک امر و نہی پر قائم رہنے والا۔ اچھی تعریف والا محمود الصفات۔ العُمْرَی: وہ چیز جو کسی کو عمر بھر کے لئے دیدی جائے۔ اَعْمَرَ سے اسم۔ کہا جاتا ہے۔ اَعْمَرْتُهُ الدارَ العُمْرَی: میں نے گھر اس کو دیدیا وہ اس میں میری عمر تک رہے یا اپنی عمر تک رہے۔

۳۔ عَمَرَ ـُ عَمْرًا و عَمَارَةً رَبَّهُ: اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، خدمت کرنا، روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا۔ العَمْر جمع أعْمار: دین، قسم کھاتے وقت کہتے ہیں لَعَمْرِی: میرے دین کی قسم۔ لَعَمْرُ اللّٰهِ و عَمْرَ اللّٰهِ: اللہ کی قسم۔ عَمْرَ اللّٰه ما فعلتُ کذا: اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا۔ العُمْر: مسجد، یہودی معبد، کلیسا، العَمَر (مص): دین۔ العَمَّار: مضبوط ایمان والا۔

۴۔ اِعْتَمَرَ الرجلُ: پگڑی باندھنا۔ العَمَر: عورتوں کا سر ڈھانکنے کا رومال۔ العَمْرَة: تاج، پگڑی وغیرہ جو سر پر رکھی جائے۔ العَمَارَة (مص): سر پر رکھی جانے والی ہر چیز جیسے تاج، پگڑی وغیرہ۔

۵۔ العَمْر جمع عُمُور: دانتوں کے درمیان کا گوشت۔ العُمْران: حلق کے کوے کے دو جانب لٹکا ہوا گوشت۔ العُمْمَه: دانتوں کے درمیان کا گوشت۔ عُمَرَ: اسم عَلَم ہے اور غیر منصرف ہے۔ العُمَران: ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عَمْرو جمع عَمْرُون و اَعْمُرُ وعُمُور: اسم عَلَم۔ اس کے آخر رفع اور جر کی حالت میں واو ہوتی ہے تاکہ عَمْرُو اور عُمَر میں تفریق ظاہر ہو۔ اُمّ عَمْرو (ح): بجو کی کنیت۔ ابو عَمْرَة: بھوک اور افلاس کی کنیت۔ العَامِر (ح): بجو کا بچہ۔ اُمّ عـامِر (ح): بجو۔ العَمَارَة: مزین کپڑے کا ٹکڑا جو خیمہ میں لگاتے ہیں۔ العَمَّار: متحمل مزاج۔ اَليَعْمُور جمع يَعَامِير (ح): بکری کا بچہ۔ چھوٹی بھیڑ۔

۶۔ العُمْرُوط جمع عَمَارِط و عَمَارِيط و عَمَارِطَة: چور، سرکش۔ العَمَرَّط: نیک جوان، بہادر، بلا، مصیبت۔

○ عَمَرَ ـُ عَمْرًا و عُمْرًا: لمبی عمر پانا۔ ـَـ و عَمُرَ ـُ عَمَارَةً: پھلنا، پھولنا، پنپنا، بہار پر آنا، آباد ہونا، مہذب، متمدن ہونا، شائستہ ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ عَمَرَ ـُ هُ: کو زندگی سے بھر دینا، کو پھلنے پھولنے دینا، با فروغ بنانا۔ ـــ ﻫ: میں رہنا، سکونت رکھنا، بودوباش رکھنا۔ ـــ جوانحه کے دل میں رچ بس جانا، کے دل میں حکومت کرنا، کے دل پر طاری ہونا۔ ـــ ﻫ: کو تعمیر کرنا، بنانا، دوبارہ بنانا، کو مرمت سے بالکل پہلا سا بنا دینا۔ عَمَّرَهُ: کو زندہ رہنے دینا، کو زندہ محفوظ رکھنا، کی عمر دراز کرنا، کو لمبی عمر دینا (اللہ تعالیٰ کا)۔ ـــ ﻫ: کو آباد کرنا ﻫ کو بنانا، مرمت کرنا، کو مرمت کر کے پہلے جیسا بنا دینا۔ ـــ ﻫ ب کو کوئی چیز فراہم کرنا۔ کو کچھ مہیا کرنا، کو سے بھرنا۔ ـــ ﻫ (بندوق) لوڈ کرنا، (پائپ) بھرنا۔ (فارم، خالی خانہ) پر کرنا۔ ـــ وَقْتَهُ: کا وقت لینا۔ اَعْمَرَ ﻫ کو آباد کرنا۔ ـــ عمرہ کرانا۔ اِعْتَمَر: عمرہ کرنا۔ اِسْتَعْمَرَهُ فی: کو میں آباد کرنا۔ ـــ ﻫ کو نو آبادی بنانا۔ (کسی ملک کو) نوآبادی بنالینا۔ عُمُر (قمون میں عَمْر) جمع اعمار: زندگی، زندگی کا عرصہ، عمر (کسی شخص کی) لَعَمْرِی: میری زندگی کی قسم۔ لَعَمْرُ اللّٰهِ: اللہ کی ہمیشہ رہنے والی ذات کی قسم ازلی اور ابدی خدا کی قسم۔ ذاتُ العُمْرَيْن: جل تھلیا، جل بھوتیا (Amphibian) عُمْرُهُ عشرين سنة: اس کی عمر بیس سال ہے۔ عَمْرَة: سر کا لباس (جیسے پگڑی) مرمت، مرمت کا کام عُمْرَة: مکہ معظمہ کا حج جو سال کے کسی خاص حصہ میں ادا کرنا ضروری نہیں اور چند رسومات پر مشتمل ہے۔ عُمْرَی: زندگی بھر کا عطیہ عَمَارَة: (بحری) بیڑا۔ عِمَارَة جمع عِمَارات و عمائر: عمارت، بلڈنگ، شاندار عمارت، تعمیر (Structure)۔ غیر منقولہ جائیداد، قطعہ اراضی۔ العِمَارَة یا فن العمارة یا هَنْدَسَةُ العِمارة: فن تعمیر، طرز تعمیر، عُمرانی: تہذیبی، تمدنی، ثقافتی، ثقافتی ترقی کے متعلق ثقافتی ترقی کا کام دینے والا۔ عَمَّارِیة: جنگ میں اونٹ پر رکھی ہوئی پالکی جس میں دلہن سوار ہو۔ اَعْمَر: زیادہ آباد، زیادہ مہذب، زیادہ متمدن، زیادہ پھلنے پھولنے اور پنپنے والا، مِعْمَار: راج، معمار، ماہر تعمیرات، عمارتیں بنانے والا۔ مِعْمارِی: عمارتی، تعمیراتی، جمع مِعْمَارِيَّة: عمارتیں بنانے والا، معمار، ماہر تعمیرات، مهندس معماری: عمارتیں بنانے والا، معمار، ماہر تعمیرات، الفن المعماری: فن تعمیر۔ تَعْمِير: بنانا، تعمیر کرنا، کھڑا کرنا، مرمت کر کے پہلا جیسا بنا دینا، مرمت، دوبارہ تعمیر، پر کرنا، خانہ پری کرنا۔ اِسْتِعمار: نوآبادیاں بنانا۔ نوآبادیوں کی بنیاد۔ سامراجی استحصال، سامراج، استعمار۔ اِستعماری: سامراجی، استعماری اِسْتِعْمَارِيَّة: ملوکیت پسندی، سامراجیت، عَامِر: آباد، پر، بھرا ہوا، پر کیا ہوا۔ ـــ ب: سے اٹا ہوا، سے پرہجوم۔ ـــ: شاندار طور پر آراستہ۔ زیر کاشت (زمین)، پنپتا، پھلتا، پھولتا، عـامِر بالامل: پرامید۔ عـامِرُ الحبیب: بھری ہوئی جیب والا۔ عـامِرُ الذمة ب: کا پابند، ذمہ دار، کا احسان مند، شکر گزار، ممنون۔ عـامِرُ النفس ب: کے وہم میں مبتلا جس پر کا سایہ ہو۔ اُمّ عـامِر: چرخ لکڑ بگڑ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نهود عامِرة: شہوت انگیز سینے۔ مَعْمُور: آباد۔ المَعْمُور یا المَعْمُورة: آباد دنیا۔ في كل انحاء المعمور (المَعْمُورة): تمام دنیا میں، دنیا بھر میں۔ مُعَمِّر جمع مُعَمِّرُون: آبادکار۔ مُسْتَعْمِر: نو آبادیاتی، استعماری، سامراجی، آبادکار، غیرملکی فاتح، حملہ آور۔ ملوکیت پسند، سامراجی، سامراج کا حامی۔ مُسْتَعْمَرة جمع مُسْتَعْمَرات: نوآبادی۔ مُسْتَعْمَرة مُسْتَقِلّة: مستقل نوآبادی۔

عمس: عَمَسَ ـُ عَمْسًا الكتابُ: تحریر کا مٹ جانا۔ ـ الامرَ: کے بارے میں دیدہ دانستہ جاہل بننا، تجاہل عارفانہ کرنا۔ ـ واعْمَسَ الشيءَ: کو چھپانا۔ عَمِسَ ـَ و عَمُسَ ـُ عَمْسًا و عَمَسًا و عُمُوسًا و عَمَاسَةً اليومُ: دن کا سخت ہونا، تاریک ہونا۔ عَامَسَ مُعَامَسَةً هُ: کو راز بتانا، سے دشمنی چھپانا۔ تَعَامَسَ: تغافل برتنا۔ ـ عنه: کو نہ جاننے والا ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَعَامَسَ عَلَيَّ فلانٌ: اس نے مجھے شبہ میں رکھا۔ العَمْس و العَمِيس: مشکل کام۔ حربٌ عَمِيسٌ: سخت لڑائی۔ العَمَاس: مشکل کام۔ ـ جمع عُمُس و عُمْس: طاقتور شیر، مصیبت۔ يوم عَمَاسٌ: سخت دن۔ حربٌ عَمَاسٌ: سخت لڑائی۔ ليلٌ عَمَاسٌ: سخت تاریک رات۔ العَمُوس: مشکل کام۔ ـ والمُعَامِس: وہ شخص جو کاموں کو بے باکانہ کرے، جیسے نادان کرتا ہے۔ أمرٌ مُعَمَّسٌ: سخت کام۔

عمش: عَمَشَ ـُ عَمْشًا هُ: کو بلاقصد مارنا۔ ـ الولدَ: لڑکے کی ختنہ کرنا۔ عَمِشَ ـَ عَمَشًا فيه الكلامُ: پر کلام کا اثر کرنا۔ ـ ت عينُهُ: کی آنکھ کا کمزور ہونا، چندھا ہونا، اکثر اوقات آنسو بہتے رہنا۔ صفت أعْمَش م عَمْشاء جمع عُمْش۔ عَمَّشَ هُ اللهُ: الله کا کسی کے چندھے پن کو دور کرنا۔ ـ و تَعَامَشَ عن الشيء: سے غافل ہونا۔ اِسْتَعْمَشَ هُ: کو بے وقوف سمجھنا۔ العُمْشُوش جمع عَمَاشِيش: وہ انگور کا خوشہ جس میں سے کچھ دانیں کھا لئے گئے ہوں۔ عام لوگ اسے عُرْمُوش یا عُمْلُوش کہتے ہیں۔

عمط عَمَطَ ـُ عَمْطًا و اعْتَمَطَ عِرضَهُ: پر عیب لگانا، کی بے آبروئی کرنا۔

عمق: ۱۔ عَمُقَ ـُ عُمْقًا و عَمَاقَةً البئر ونحوها: کنویں وغیرہ کا گہرا ہونا۔ صفت عميقة جمع عَمَائِق۔ (عام لوگ غَمِيق کہتے ہیں۔ صفت غَمِيق م غميقة) ـ و عَمِقَ ـَ عُمْقًا و عُمَاقَةً المكانُ او الطريقُ: جگہ یا راستہ کا دور، کشادہ اور لمبا ہونا۔ صفت عَمِيق جمع عِمَق و عُمُق و عِماق عَمَّقَ و أعْمَقَ و اعْتَمَقَ البئرَ: کنویں کو گہرا کرنا، کہا جاتا ہے: عَمَّقَ النظرَ في الأمور: اس نے معاملات پر گہری نظر ڈالی۔ تَعَمَّقَ في الامر: معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ـ في كلامه: خوب چرب زبانی سے بات کرنا۔ العَمَقُ والعُمُقُ جمع أعْمَاق: گہرائی، جو جنگل کے اطراف سے دور ہو۔ العُمْقُ جمع أعْماق: گہرائی۔ العَمَقَة: برتن یا مشک کی تہہ میں گھی کا میل۔ رجُلٌ عُمُقِيُّ الكلام: گہری بات کہنے والا۔

۲۔ العَمَق: حق۔ استحقاق، کہا جاتا ہے۔ لَهُ فيه عَمَقٌ: اس کے لئے اس میں حق واستحقاق ہے۔

○ عَمُقَ ـُ عُمْقًا و عَمَاقَةً: گہرا ہونا یا ہوجانا۔ (نیند، دلچسپی، سوچ، علم وغیرہ کا) گہرا ہونا۔ عَمَّقَ هُ: کو گہرا کرنا، زیادہ گہرا کرنا، اعْمَقَ بمعنی عَمَّقَ۔ تَعَمَّقَ هُ / في: (بات وغیرہ کی) تہہ کو پہنچنا، میں گہرائی تک جانا، میں منہمک یا مستغرق ہونا۔ عَمْق و عُمْق جمع أعْمَاق: گہرائی، تبحر، تہہ، مِن أعماق قلبه: تہہ دل سے، روح کی گہرائی سے۔ مِن أعْماق النفس: تہہ دل سے، روح کی گہرائی سے۔ عَمِيق: گہرا، گہرا (احساس)، گہری، گہرا (سوچ، فکر، علم، راز، مفاد، نیند)۔

عمل: ۱۔ عَمِلَ ـَ عَمَلاً: کام کرنا، محنت کرنا۔ ـ للامير على بلاد: ملک کا عامل یا حاکم ہونا۔ ـ عَلَى الصَّدَقة: صدقہ جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ عَمَّلَ هُ: کو اجرت دینا۔ ـ هُ على البلد: کو ملک کا عامل یا حاکم بنانا، کہا جاتا ہے۔ عُمِّلَ فلانٌ عَلَيهِم: فلاں کو ان پر حاکم بنایا گیا۔ عَامَلَ مُعَامَلَةً هُ: کو عمل کی تکلیف دینا، سے معاملہ کرنا۔ أعْمَلَ هُ: کو عامل یا حاکم بنانا۔ ـ الآلةَ او الـرأيَ: آلہ یا رائے کو استعمال کرنا، پر عمل کرنا۔ ـ الرجُلَ: کو اجرت دینا۔ تَعَمَّلَ لكذا: کے لئے بہت کوشش کرنا۔ ـ من اجلِ فلان او في حاجته: فلاں کیلئے یا اس کی ضرورت کے بارے میں کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، کاوش کرنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا۔ تَعَامَلَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اِعْتَمَلَ: کام میں مضطرب ہونا، اثر قبول کرنا، اپنے لئے کام کرنا۔ اِسْتَعْمَلَ هُ: کو عامل یا حاکم بنانا، کو کام کرنے کیلئے کہنا۔ ـ الآلةَ: آلہ استعمال کرنا۔ ـ الثوبَ: کپڑا استعمال کرنا۔ اُسْتُعْمِلَ فلانٌ: شاہی کام میں سے کسی کام پر متعین ہونا۔ العَمَل (مص) جمع أعْمال: [illegible] کیا جانے والا [illegible] العَامِلِيَّة جمع أعْمال: وہ جس پر عامل والی ہو۔ أعْمَالُ البَلَد: ملک کے مضافات۔ العَمِل: کاریگر۔ قابل کام کرنیوالا، خوگر عمل۔ العَمِلَة: عَمِل کا مونث۔ جو کیا جائے۔ العَمْلَة: ایک بار کا کام۔ العِمْلَة: عمل کی ہیئت۔ جو کام کیا جائے۔ ـ و العُمْلَة: کام کی اجرت، عام لوگ اسے نقود کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ رديء العُمْلَة: فلاں معاملہ کا کھوٹا ہے۔ العَامِل (فا) جمع عُمَّال و عَامِلُون و عَمَلَة: ہر ہاتھ سے کام کرنے والا، جو کسی کے مالی امور، جائیداد اور کام وغیرہ کا متولی ہو۔ سردار، والی حاکم۔ العَامِلَة جمع عَامِلات و عَوَامِل: عامل کا مونث: العَوَامِل: پاؤں، کھیتی اور گاہنے کے بیل۔ العَمَّال م عَمَّالَة: عامل کا صیغہ مبالغہ۔ العِمَالَة: کام کرنے والے کا پیشہ۔ ـ والعَمَالَة والعُمَالَة: کام کرنے والے کی اجرت اور رزق، عام لوگ عُمُولَة کہتے ہیں۔ اسے کمشن بھی کہا جاتا ہے۔ العَمُول: کام کرنے والا، پیدائشی کام کرنے کا خاصہ رکھنے والا، خوگر عمل۔ العَمِيل جمع عُمَلاء (ت): ایجنٹ، آڑھتی، شریک عمل۔ المَعْمَل جمع مَعَامِل: کارخانہ، کام کرنے کی جگہ۔ المُعَامَلات: کاروباری معاملات وہ شرعی احکام جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو، جیسے خرید وفروخت کے احکامات۔ المَعْمُول (ط): میدہ، گھی اور چینی سے تیار کردہ کیک واحد معمول۔ المُسْتَعْمَل (مفع): استعمال کیا ہوا، برتا یا ہوا۔ اليَعْمَل و اليَعْمَلَة جمع يَعَامِل و يَعْمَلات: اونٹ اور اونٹنی جو کام کرنے کی خوگر ہوں۔

۲۔ عَمِلَ ـَ عَمَلاتِ الكلمةُ في الكلمة: ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ میں اثر کرنا، کو اعراب دینا۔ أعْمَلَ الكلمةَ في الكلمة: کلمہ کو دوسرے کلمہ پر عامل بنانا۔ العَامِل عند النحاة: نحویوں کے نزدیک۔ دوسرے کلمہ پر اثر انداز ہونے والا جیسے قَامَ الولدُ میں قَامَ۔

۳۔ عَمِلَ ـَ عَمَلاً البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا۔ برقٌ عَمِلٌ: لگاتار چمکنے والی بجلی۔

۴۔ اعْمَلَ الرمحَ: صدر نیزہ سے مارنا۔ عامِلُ و عَامِلَةُ الرمح: نیزے کے پھل کے قریب کا حصہ۔ صدر نیزہ

۵۔ العَمْلَة: خیانت، چوری۔

○ عَمِلَ ـَ عَمَلاً في: (کسی شعبہ میں) کام کرنا، سرگرم ہونا۔ ـ هُ: کو بنانا، وجود میں لانا، تخلیق کرنا، کرنا، بجا لانا، عمل میں لانا۔ ـ ب: کے مطابق، کی بنیاد پر کرنا، کو چلانا۔ ـ على: کا یا کیلئے منصوبہ بنانا، کی تدبیر نکالنا یا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا، کا بندوبست کرنا، انتظام چلانا، جتن کرنا، کو انجام دینے بجالانے یا پورا کرنے کی کوشش کرنا، کے حصول کے پیچھے لگا رہنا، کو حاصل کرنے کیلئے جدو جہد کرنا۔ — ل / علی: پر تلا ہونا، کے لئے سخت کوشش کرنا، کی کاوش کرنا، کو تن دہی سے کرنا، — علی: کو کرنے کیلئے بڑی محنت اور کوشش کرنا، میں سرگرم ہونا۔ — فی: کو بنانا، کو کرنا، پر عمل کرنا، کو کام میں لانا، استعمال کرنا، پر اثر انداز ہونا۔ یُعْمَل به: یہ قانونی یا معقول ہے، موثر یا اثر آفریں ہے، نافذ (العمل) ہے، عمل ترتیبات: انتظامات یا تیاریاں کرنا، عمل اعمالَه: کے جیسے کام کرنا، کا سارویہ اختیار کرنا کی طرح پیش آنا۔ لابِهِ یُعْمَل ولا عَلَیْهِ یُعَوَّل: کالعدم۔ عَمَّل ہ علی: کو کا یا پر حاکم مقرر کرنا، —: (زخم کا) خراب ہوجانا، ناسور بن جانا، (زخم میں) پیپ پڑجانا، عَامَل ہ ب: سے کے انداز میں سلوک کرنا، برتاؤ کرنا۔ — ہ: کے ساتھ تجارت کرنا، کاروبار کرنا۔ — ہ بالمثل: سے ویسا ہی سلوک یا برتاؤ کرنا، اَعْمَلَ ہ کو بنانا، چلانا، کو کرنا، استعمال کرنا، صرف کرنا۔ — ہ فی / ب کو کسی دوسری چیز کے بارے میں بڑے بے ڈھنگے پن سے مرمت کرنا۔ اَعْمَلَ الفکر: سوچنا، غور کرنا۔ اَعْمَلَ السیفَ فی رقابهم: کا قتل عام کرانا۔ تَعَمَّل: سخت پریشانی سے دوچار ہونا، سخت محنت اور کوشش کرنا۔ تَعَامَل: ایک دوسرے سے تجارت کرنا، کاروبار کرنا، — مع: کے ساتھ کاروبار کرنا، تجارت کرنا۔ اِعْتَمَل: کام کرنا، سرگرم ہونا، استعمل ہ کوئی چیز لگانا، استعمال کرنا۔ — ہ: کو کام پر لگانا، کو ملازم رکھنا، — ہ علی: کو گدی پر بٹھانا، مسند نشین کرنا، کو کا سربراہ بنانا۔ استعمل معه وسائل القسوة: اس نے اس کے خلاف شدید اقدامات کئے۔

عن ا۔ عَنْ: حرف جر ہے اور ذیل کے معانی دیتا ہے:۔

ا۔ مجاوزت: جیسے سِرْ عَن مکان فیه ظُلم: ایسی جگہ سے چل دے جہاں ظلم ہوتا ہو۔

۲۔ بدل جیسے یوم لاتجزی نفس عن نفس شیئًا: وہ دن جس روز کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے گا۔

۳۔ تعلیل: جیسے مافعل ذلك الاعن اضطرار: اس نے ایسا مجبوری کی وجہ سے کیا۔

۴۔ بعد: جیسے عن قلیل تدری: تجھے تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوجائے گا۔

۵۔ استعلاء: جیسے احببتُ الاحسان إلی الفقراء عن کثرة الصلاة: میں نے فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو نماز کی کثرت پر ترجیح دی۔

۶۔ ب کی مرادفت: وما ینطق عن الهوی: وہ خواہش نفسانی سے نہیں کہتا۔

۷۔ عن: جانب کے معنی میں اسم اس وقت اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے۔ جیسے جلس من عن یسار الخلیفة: وہ خلیفہ کی بائیں سمت بیٹھا۔

عَنَّ ا۔ عَنَّ ـِ عَنًّا و عَنَنًا و عُنُونًا لَهُ الشیءُ: کے سامنے ظاہر ہونا، کے پاس جانا، اپنے آپ کو کے سامنے پیش کرنا۔ کہا جاتا ہے: لاافعله ما عَنَّ نجمٌ فی السماء: میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کوئی ستارہ آسمان میں ظاہر نہ ہوگا۔ — عَنَ الشیءَ: سے اعراض کرنا۔ — فلانًا: کو گالی دینا۔ — اللجامَ: لگام میں ڈور لگانا۔ — الفرسَ: گھوڑے کو لگام سے روکنا۔ عَنَّنَ اللجامَ: لگام میں دوڑ لگانا۔ عَانَّ مُعَانَّةً و عِنَانًا ہُ: کا آمنا سامنا کرنا، کی مخالفت کرنا۔ اَعَنَّ اللجامَ: لگام میں ڈور لگانا۔ — الفرسَ: گھوڑے کو لگام سے روکنا۔ اِعْتَنَّ له الشیءُ: کے سامنے ظاہر ہونا، العَانّ (فا): لمبی رسی، پھیلا ہوا بادل۔ العَانَّة: عانّ کا مونث، بادل۔ العَنَنُ: سامنے آنے والی شے۔ العُنَّة جمع عُنَن: رسی، اونٹوں اور گھوڑوں کیلئے لکڑیوں کا باڑہ۔ العَنَان: بادل۔ عَنَانُ السماء: آسمان کا نظر آنے والا حصہ۔ افق عَنَانُ الدار: گھر کا کنارہ۔ العَنَانَة: بادل کا ایک ٹکڑا۔ العِنَان (مص) دکھائی دینے والی چیز — جمع اَعِنَّة و عُنُن لگام کی رسی کہا جاتا ہے: ذلَّ عِنَانُه: وہ تابع ہوگیا۔ هما یجریان فی عِنَان: دونوں فضیلت وغیرہ میں برابر ہیں۔ هو قصیرُ العِنان: وہ بے خیر شخص ہے۔ رجُل طویل العِنان: شریف مرد۔ رجُل اَبِیُّ العنان: خود دار۔ اِمتلأ عِنانُه: وہ اپنی کوشش کو پہنچ گیا، جری الفرسُ عِنانًا: گھوڑے نے ایک چکر لگایا۔ کبا الفرسُ فی عِنَانِه: گھوڑا اپنے چکر میں ٹھوکر کھا گیا۔ اَرْخِ من عنانه: لگام کو ڈھیل دیدو۔ شرکة العِنَان: دو آدمیوں کی کسی خاص مال میں شرکت، کہا جاتا ہے۔ عُنَانَاكَ ان تفعل کذا: تم زیادہ سے زیادہ یہ کرسکتے ہو۔ العَنَّان: بہت سبقت لیجانے والا۔ الاَعْنَان: درختوں کے اطراف، درختوں کی چوٹی۔ اعنانُ السماء: آسمان کے اطراف۔ افق۔ المِعَنّ م مِعَنَّه: ہر یا غیر متعلق باتوں میں دخل دینے والا، اچھا مقرر۔ المَعْنُون: مجنون، پاگل، دیوانہ۔

۲۔ عَنَّ ـُ عَنًّا و عَنَنًا و عُنُونًا و عَنَّنَ الکتابَ: کتاب کا عنوان لکھنا۔ عَنَّیْتُ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ایک نون کو یاء سے بدل دیتے ہیں۔

۳۔ العُنَّة جمع عُنَن: ہانڈی رکھنے کا چولہا۔

۴۔ عَنْعَنَ عَنْعَنَةً ہمزہ کو عین کی طرح پڑھنا۔ بنی تمیم میں عنعنة تھا چنانچہ وہ کہا کرتے تھے یعجبنی عن تفعل کذا یعنی یعجبنی أن تفعل کذا۔ — الراوی: روایت کو عن فلان عن فلان کہہ کر بیان کرنا۔ عوامی زبان میں کہا جاتا ہے: عَنَّ المریضُ۔ یہاں عن بمعنی اَنَّ ہے۔ یعنی مریض کا کراہنا اور عنین یعنی انین (کراہنا) ہے۔

○ عَن یمینه: کے دائیں (جانب، طرف) ہاتھ، علی ارتفاع الف قدم عن سطح البحر: سطح سمندر سے ایک ہزار فٹ بلند۔ عن طریقِ —: براہ، کے راستہ سے، کے ذریعے۔ الیك عَنِّي: مجھ سے دور ہو۔ عن امرہ: کے حکم پر، کی ترغیب، تحریک یا انگیخت سے، کے کہنے پر۔ عن بصیرة: دانستہ، صورت حال سے پوری طرح آگاہ۔ عن حسن نیّة: واقعی خلوص سے، نیک نیتی سے، خلوص سے، صدق دلانہ۔ عن حق: انصاف سے، جائز اور حق کے طور پر۔ عن خوف: خوف سے۔ عن علم، عن درایة: صحیح علم کی بنیاد پر، صورتحال سے کامل آگاہ ہوتے ہوئے۔ عن سرور: خوشی سے، بمسرت۔ عن قناعةٍ وجدانیة: قطعی اندرونی یقین سے، عن قریب، عما قریب عن قلیل و عما قلیل: جلدی، ابھی، تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر بعد۔ عن وساطة فلان: کی مدد سے یومًا عن یوم: دن بدن۔ قُتِلُوا عن آخرهم: ان کا آخری آدمی تک قتل کردیا گیا۔ مات عن ثمانینَ سنةً: اسی سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ مات عن ترکة کبیرة: وہ بہت سی دولت چھوڑ کر مرا۔ عَنَّ ـِ عَنًّا و عننًا ل: اپنے آپ کو کے سامنے پیش کرنا۔ کے دل میں صورت پذیر ہونا، ظہور میں آنا۔ (کسی رائے کا) آنا، کے سامنے آنا۔ عنَّ له أن: "خیال آیا کہ......" عُنَّة: نامردی۔ عَنَانٌ (اسم جنس واحد عنانة) بادل۔ عِنان جمع اَعِنَّة: باگ، لگام، لگام مع دھانہ۔ اَطْلَقَ له العنان: کو کھلی چھٹی دینا، جرت الامور فی اَعِنَّتها: امور کا عام راستہ اختیار کرنا، پروگرام کے مطابق پایہ تکمیل کو پہنچنا۔ عنین: نامرد۔

عنب ا۔ عَنَّبَ الکَرْمُ: انگور کی بیل میں انگوروں کا آنا۔ العِنَب (واحد عِنَبة) جمع اَعْنَاب: انگور۔ عنب الثعلب: کو۔ عنب الحیّة: طبی فوائد کا جنگلوں میں اگنے والا ایک پودا۔ عنب الدُّب: ایک پودا جو کھالیں رنگنے اور طب میں استعمال ہوتا ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الـعِـنـبِيَّة: انگور اور کشمش جیسا ایک پھل۔ (ن) ایک لذیذ پھل دار پودا۔ العُنّاب (واحد عُنّابة) عُنّاب۔ العَنّاب: انگور فروش۔

۲۔ العُنَاب و الاعْنَب: بڑی ناک والا۔

۳۔ عَنبَرَ الشیئَ: کو عنبر سے خوشبودار کرنا۔ الـعَنبَر: ایک قسم کی خوشبو۔ زعفران — جمع عَنَابِر: غلہ کا گودام۔ (ح) ایک بڑی قسم کی مچھلی۔ —— عَنبَرُ الشتاء و عَنبَرَتُهُ: سردی کی شدت۔ العَنبَرِیّ: عنبر سے معطر کی ہوئی شراب۔

○ عنبری: کبوتر کی ایک قسم، عنبری و نبیذ عنبری: عنبر سے معطر کی گئی شراب۔ عَنبر جمع عَنَابِر گودام، ذخیرہ، مخزن۔ اسلحہ خانہ، ڈپو، بڑی دکان، کارخانہ کا بڑا کمرہ، بحری جہاز کا گودام، (ہسپتال کا) وارڈ۔ بحری جہاز کے عملے کے کوارٹر، بیرکیں۔

عنت ۱۔ عَنِتَ ـ عَنَتًا: دشواری میں پڑنا، مصیبت میں پڑ کر ہلاک ہونا۔ عَنَّتَ ہُ: پر سختی کرنا۔ ایسے کام پر مجبور کرنا جس کا کرنا مشکل ہو اور برداشت سے باہر ہو۔ — فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ اَعْنَتَ الراکبُ الدابَّةَ: جانور پر سختی سے اتنا بوجھ لادنا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ —— الرجُلَ: کو ہلاکت میں ڈالنا، ایسے کاموں میں ڈالنا جن کو کرنا اس کے لئے مشکل ہو۔ تَعَنَّتَ ہٗ: کو تکلیف پہنچانا۔ کی مشقت کا خواہاں ہونا۔ — الرجُلَ وعلیه فی السؤال: سے پریشان کن خلط ملط سوال کرنا۔ العَنُوت: ٹیلہ جس پر چڑھنا دشوار ہو۔ المُتَعَنِّت: ضدی۔ منہ زور۔ ہٹ کا پکا۔ ہٹ دھرم۔ کہتے ہیں: ارضاءُ المُتَعَنِّتِ صعب: ضدی شخص کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔

۲۔ عَنِتَ ـ عَنَتًا: گناہ کرنا۔ — الشیُّ: چیز کا خراب ہو جانا۔ — العظمُ: ہڈی کا درستی کے بعد ٹوٹ جانا صفت: عَنِت، عَنَّتَ الشیَ العظمَ المجبورَ: درست شدہ ہڈی کو توڑ دینا۔ اَعْنَتَ الجابرُ الکسیرَ: ہڈی جوڑنے والے کا ٹوٹی ہوئی ہڈی کی اچھی طرح دیکھ بھال نہ کر کے زیادہ خراب کر دینا۔

۳۔ عَنتَرَ عَنتَرَةً: لڑائی میں بہادری کرنا۔ — ہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ — العُنتُرُ مکھی کا بھنبھنانا۔ العَنتَرُ و العُنتَر و العُنتَرُ (واحد عَنتَرة (ح) مکھی، نیلی مکھی۔

○ عَنِتَ ـ عَنَتًا: کے برے دن آنا، مصیبت میں پڑنا، سختی دیکھنا، گناہ کرنا، خصوصاً زنا کرنا۔ عَنَّتَ ہٗ کو مشکل کام کرنے پر مجبور کرنا۔ اَعْنَتَ ہٗ کو تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، پر سختی کرنا، سے سخت سلوک کرنا سے برا برتاؤ کرنا۔ تَعَنَّتَ ہٗ کو پریشان کرنا، کو تکلیف پہنچانا، پر دباؤ ڈالنا، کو جان بوجھ کے چھیڑنا، کو سوالات کے ذریعے پریشان کرنے کا جویا ہونا۔ —— مع: کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ تَعَنَّتَ ضد کرنا، ہٹ دھرمی کرنا، منہ زوری سے اصرار کرنا۔ عَنَت سختی، مشکل، عسرت، مفلسی، ایذا، دکھ تکلیف، رنج والم، مصیبت، قہر، بپتا، نکبت، سخت غربت، پریشانی، دباؤ، مجبوری، جبر۔ اِعْنَات اذیت، پریشانی، چھیڑ چھاڑ، حیلہ بازی، دباؤ، جبر، مجبوری۔ تَعَنُّت ضد، ہٹ دھرمی، منہ زوری، منہ زور جوش، اصرار۔ عَنتَرَ مردانگی کا مظاہرہ کرنا۔ عَنتَر عنتر مشہور فتوت کی داستان کا ہیرو۔ عَنتَرِی عنتر کی داستان کا عوامی قصہ گو۔ عَنتَرِی جمع عَنَاتِر انگیا، باڈی، چولی، سینہ بند۔ عَنتَرِیَّة عنتر، عنتر کی داستان۔ عنتر کے کارناموں کی کہانیوں کا سلسلہ۔

عنث: العَنثة و العُنثة و العِنثة جمع عِنَاث و العَنثُوَة و العُنثُوَة جمع العَنَاثی: ایک مخصوص گھاس جبکہ وہ خشک اور سیاہ ہو جائے۔

عنج ۱۔ عَنَجَ ـُ عَنجًا و عَنَّجَ الشیَٔ: کو کھینچنا۔ — الدلوَ: ڈول کو رسی سے باندھنا۔ العِنَاج جمع اَعنِجَة و عُنُج: درد پشت، بڑے ڈول کے نیچے باندھی جانے والی رسی۔

۲۔ عَنجَرَ عَنجَرَةً: ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ العُنجُورَة: شیشی کا غلاف۔

○ عُنجُهِيَة: غرور، کبر، نخوت، خود بینی۔

عند ۱۔ عَنَدَ ـُ عُنُودًا عن اصحابه: سفر میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جانا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا، یا ان سے پیچھے رہ جانا۔ —— ـِ و عَنِدَ ـَ و عَنَدَ ـُ عُنُودًا عن الطریق او القصد: راستہ یا ارادہ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا۔ — الرجُلُ: جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرنا۔ صفت عَنِید جمع عُنُد۔ — العِرقُ: رگ سے لگاتار خون بہنا۔ عَانَدَ مُعَانَدَةً و عِنَادًا ہٗ: سے علیحدہ ہونا، کی مخالفت کرنا۔ اَعْنَدَ فلانًا: کی مخالفت کرنا۔ —— العرقُ: رگ سے لگاتار خون بہنا۔ تَعَانَدَ القومُ: ایک دوسرے کی مخالفت کرنا۔ استعند الفرسُ: گھوڑے کا سرکشی کرنا، منہ زور ہونا۔ —— ہٗ القیءُ: کو قے کا گھیر لینا۔ العَانِد (فا) جمع عُنَّد و عَوَانِد: میانہ روی سے ہٹنے والا۔ دم عَانِدٌ: ایک سمت بہنے والا خون۔ کہا جاتا ہے: طَعَنہ طعنا عاندا: کو دائیں یا بائیں نیزہ مارنا۔ العُنُد و العِنُد و العَنُد: جانب، کنارہ۔ العَنَد: جانب کنارہ، کہا جاتا ہے: ہو یمشی [illegible] کنارے پر نہیں چلتا۔ العِنَادِیُّ: معروضی وجود افکار کے منکر فرقہ کا پیرو، مثالیت پسند۔ العِنَادِیَّة او المثالیَّة: مثالیت تصوریت، (idealism)۔ حقیقت اشیاء کے منکرین کا مذہب جو کہتے ہیں کہ اشیاء نقش برآب کی طرح باطل اوہام اور تصورات ہیں۔ اور اس بات کے قائل ہیں کہ علم و معرفت کا صدور تصوریت سے ہوتا ہے۔ العَنُود جمع عُنُد: میانہ روی سے ہٹنے والا۔ سحابةٌ عَنُود: موسلا دھار برسنے والا بادل۔ عَقَبَةٌ عَنُودٌ: دشوار گزار گھاٹی۔ رجُل عَنُودٌ: وہ شخص جو تنہا اترے، کسی کے ساتھ نہ اترے۔

۲۔ عَانَدَ مُعَانَدَةً و عِنَادًا الشیَٔ: کے ساتھ ساتھ رہنا۔ —— الرجُلَ: کے جیسا کام کرنا۔ اِستَعنَدَ فلانًا: کا قصد کرنا۔

۳۔ عِند: اسم مکان جیسے: وقفتُ عند الباب: میں دروازہ کے پاس کھڑا ہوا۔ اسم زمان جیسے: سافرتُ عند مغیب الشمس: میں نے سورج کے غروب کے وقت سفر کیا۔ من کے داخل ہونے سے مجرد ہو جاتا ہے، جیسے: اتیتُ من عنده: میں اس کے پاس سے آیا۔ عام لوگ کہتے ہیں: ذهبت إلی عنده جو از روئے قواعد غلط ہے۔ صحیح ذهبت الیه ہے۔ جس کا معنی یہ ہے: میں اس کے پاس گیا۔ الـعِـنـد: دل۔ معقول۔

۴۔ عَندَرَ المطرُ: سخت بارش ہونا۔

۵۔ عَندَلَ عَندَلَةً الهزارُ: بلبل کا چہچہانا۔ العَندَلِیب جمع عَنَادِل (ح) بلبل۔

۶۔ الـعَـنـدَم: برازیلی لکڑی جو رنگنے میں استعمال کی جاتی ہے، سرخ رنگ رنگنے کا پودا یا معدنی چیز۔ اس لکڑی کو دم الاخوین یا بَقَّم کہتے ہیں۔

○ عَنَدَ ـِ عُنُودًا و عَنِدَ ـَ عَنَدًا عن: سے جدا ہونا، سے تجاوز کرنا، انحراف کرنا، ہٹنا، منحرف ہونا، — سرکشی سے مقابلہ کرنا، ضدی ہونا، سرکش ہونا، منہ زور ہونا۔ عَانَدَہٗ: کا مقابلہ کرنا، کی مخالفت کرنا، (مستقل مزاجی سے)۔ استعند ہٗ: کے ساتھ لگا رہنا۔ عِندَ: کے پاس، کے نزدیک، کے ساتھ، کے وقت، کے قبضہ میں، پر، کی رائے میں۔ من عند: سے، کے گھر سے، سے دور۔ من عنده: جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ اضاف شیئا من عنده: اس نے اپنا کچھ بھی شامل کیا۔ عِندَهَا: اس لمحہ۔ ان الفاظ کے ساتھ۔ علی عندی: میرے مقابل، میرے خلاف۔ عند البیت: گھر کے نزدیک، گھر میں۔ عند التحقیق: اصل بات تو یہ ہے کہ درحقیقت، لگی لپٹی رکھے بغیر۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(to be exact, strictly speaking)۔ عندطلوع الشمس: سورج نکلنے پر، عندی دینار واحد: میرے پاس صرف ایک دینار ہے۔ عنـد ذلك: تب، پھر، اس کے بعد، اس لئے، چنانچہ، فوراً ہی، اس لمحے، ملـوك الارض عـنـد الله تراب: اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں زمینی بادشاہ محض مٹی ہیں۔ عِـنـدی: میری رائے میں، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں۔ مـا عـنـدك: تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ لم یکن عندہ أیھم: وہ وہ نہ تھا جس کی انہیں توقع تھی۔ کان عند حُسن ظنه: کی بلند توقعات پر پورا اترنا، کـان عـنـد حسـن الظن به: کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ کان عند نُصحِه: کے مشورہ پر چلنا۔ عندما: جیسے ہی، جب بھی، جب من عِندِیاتِه: اس کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا، اس کی اپنی دماغی اختراع، خود آپ سے، آپ ہی آپ، از خود، خود بخود، آپ ہی، آپ سے آپ۔ عِـنـدَئِـذٍ: تب اس وقت، اس لمحے، کے ساتھ، اس ذریعہ سے۔ عنید جمع عُنُد (ل: کا سختی سے مقابلہ کرنے والا)، ضدی، ہٹ دھرم، ہٹ کا پکا، خودسر، سرکش، خودرائے، اپنی رائے سے نہ ہٹنے والا، اپنی بات پوری کئے بغیر نہ چھوڑنے والا، ثابت قدم، مستقل مزاج، ہٹیلا۔ عِناد: مقابلہ، مقاومت، مخالفت، ضد، ہٹ دھرمی، خودسری، سرکشی، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، خودداری۔ مـعـانـدہ: مقابلہ، مقاومت، مخالفت، ضد، ہٹ دھرمی، خودسری، سرکشی، خودداری، اپنی رائے پر اڑا رہنا۔ مُـعـانِد (ل: کا سختی سے مقابلہ کرنے والا) ضدی، ہٹ دھرم، خودرائے، اپنی رائے پر اڑنے والا۔ عـنـدلة: بلبل کی چہچہاہٹ، گیت۔ عَنـدَمی: گہرا سرخ۔

عنز: ا۔ عَـنَـزَ ـُ عَنزًا ہٗ: کو نیزہ مارنا۔ العَنَزة جمع عَنَز و عَنَزات: ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو۔ عَـنَـزَة الفاس: کلہاڑی کی دھار۔ العَنُوز و العَنِز: مصیبت میں مبتلا۔

۲۔ عَـنَـزَ ـِ عَنزًا و اِعـتَـنَـزَ و اِستَعنَزَ عنه: سے علیحدہ ہونا، ایک گوشے میں اترنا۔ اعـنـز الشـئَ: کو جھکانا۔ تَعَنَّزَ: لوگوں سے علیحدہ ہوجانا۔

۳۔ العَـنـز جمع عِـنـاز واَعـنُـز و عُنُوز (ح): بکری۔ (ح) مادہ چکور، مادہ شکرا، ہرنی، مادہ گدھ۔ العَـنـزَة (ح): بکری۔

۴۔ العَـنـزُ وقة عند العامة: ہنڈولا۔ اس کے اسم سے فعل بنا کر کہتے ہیں: عَـنـزَقـه: اس نے اسے جھلایا تعنزق وہ جھولا۔

عنس: ا۔ عَنَسَ ـِ عَنسًا العودَ: لکڑی کو جھکانا، موڑنا۔ اَعنَسَ الشئَ: کو متغیر کرنا، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ لم تَـعـنُـسُ او لم تَعنِس السنُّ وجهه: کبرسنی نے فلاں کے چہرہ کو متغیر نہیں کیا۔ الشـیـبُ وجـهَـهُ: بڑھاپے کا چہرے کو بدل دینا۔

۲۔ عَـنَـسَ ـُ عُنوسًا و عِناسًا الجاریةُ: لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد دیر تک اپنے گھر والوں کے پاس بے شادی کئے رہنا۔ صفت عانِس جمع عَوانِس و عُنس و عُنـس و عُنوس ـ الرجل: مرد کا بڑی عمر تک بغیر شادی کے رہنا۔ صفت عانِس۔ عَـنِـسَ ـَ عُنوسًا و عِناسات الجاریة: لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد دیر تک بغیر شادی کے رہنا۔ عَنَّسَ ت الجاریةُ: لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد بغیر شادی کے رہنا۔ — الجاریةَ اَھـلُـھا: لڑکی کے گھر والوں کا اسے شادی سے روکے رکھنا۔ صفت: مُعَنَّسة جمع مُعَنَّسات و مَعانِس۔ عُنِّسَ و أُعنِسَ ت الجاریةُ بمعنی عَنَسَتْ۔

۳۔ عَـنِـسَ ـَ عَنَسًا: ہروقت آئینہ دیکھتے رہنا۔ العِناس جمع عُنُس: آئینہ۔

۴۔ العَنس جمع عِناس و عُنوس (ح): عقاب، طاقتور اونٹنی۔

○ عانس: جمع عَوانِس: ناکتخدا عورت، بوڑھی دوشیزہ۔

عـنـش: عَـنَـشَ ـُ عَـنـشًا العودَ: لکڑی کو جھکانا، موڑنا۔ الـرجُلَ: کو پریشان کرنا، غضبناک کرنا۔ عـانَـشَ مُـعـانَـشَـةً و عِـنـاشًا: لڑائی میں ایک دوسرے سے لپٹنا، مفاخرت کرنا۔ تَـعَـنَّـشَ المالَ: ہر طریقے سے مال جمع کرنا۔ تـعـانـشا: ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ اِعـتَـنَـشَ ہٗ: لڑائی میں ایک دوسرے سے لپٹ جانا، پر ظلم کرنا۔ الاَعـنَـش: جس کی چھ انگلیاں ہوں، چھے انگلیا۔

عنص: ا۔ الـعُـنـصُـر و العُنصَر جمع عَناصِر: اصل، جڑ، کہا جاتا ہے۔ انـه لـکـریـم العُنصَر: وہ شریف الاصل ہے۔ حسب، ہمت، ضرورت، مصیبت، ہیولے، مادہ، جسم بسیط۔ الـعُـنـصُـرُ الـکـھـربـائی (ف): برقی عنصر، جو برقی رو پیدا کرنے میں کیمیائی عمل سے کام لیتا ہے اور مثال کے طور پر ٹارچ میں استعمال ہوتا ہے۔ قـدمـاء کے نزدیک عنصر چار تھے: آگ، پانی، ہوا، مٹی انہیں استقسات، مواد اور ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ عُـنـصُـری: عنصر کا، عنصر سے متعلق، جسم عـنـصـری: بسیط۔ الـعُـنـصُـرِیَّة: نسلی عصبیت، نسلی برتری کا احساس (racism)۔ عیـد الـعُـنـصـرة: شاگردوں میں روح القدس کے حلول کی یادگار کی عید جو عید الفصح کے پچاس دن بعد منائی جاتی ہے۔ (عـنـد الیهود) طور سینا پر نزول احکام شریعت کی یاد میں منائی جانے والی عید۔ یہ لفظ عبرانی ہے۔ اور اس کا معنی اجتماع یا محفل ہے۔

۲۔ العُـنـصُـل (ن): جنگلی پیاز۔ جس کو بصل الفار بھی کہتے ہیں۔

۳۔ العُنصُوة و العِـنـصُـوة و العُنصُوة و العِنصِیَة و العِـنـصَـاة جمع عَناصٍ: تھوڑے سے متفرق بال یا گھاس وغیرہ۔

○ عُنصُر جمع عَناصِر: اصل، نسل، سامان، قسم، نسلی عنصر، عنصر (element)۔ جز و ترکیب، مشتمل حصہ (Component)، جز و ترکیبی (ingredient)۔ عُنصری: نسلی، عنصری و عناصر (عناصر کا یا عناصر کے متعلق)۔ التبـاغـض الـعُـنـصـری یـا الاحقـاد العُنصریة: نسلی تنفر یا نفرت۔ المسألة العنصریة: مسئلہ قومیت، نسلی اقلیات کا مسئلہ۔ عُـنـصَـریة: نسل، قومیت، نسلی تھیوری۔ الـعَـنـصَـرة و عید العنصرة: سفید اتوار والا ہفتہ، ایسٹر کے بعد کا ساتواں اتوار سفید اتوار۔ عُـنـصُـل: سمندری پیاز۔ عَـنـعَـنـات: روایات۔ مُعَنعَن: ارسال کردہ۔

عنظ: ا۔ العُنظُب و العُنظُبان و العُنظُوب م عُنظُوبة (ح): ایک قسم کی ٹڈی۔

۲۔ عَـنظَی به: سے ٹھٹھا کرنا، کو بری بات سنانا، گالی دینا۔ العُنظُوان: فحش بکنے والا۔ (ن): ایک قسم کی کٹی گھاس۔ العُنظُوانَة جمع عُنظُوانات (عُنظُوان کا واحد)۔ (ح) مادہ ٹڈی۔ العِنظِیان: فحش بکنے والا۔

عنف: ا۔ عَنُفَ ـُ عَنفًا و عَنافةً بالرجل و علیه: پر سختی کرنا، صفت عنیف جمع عُنُف۔ عَـنَّـفَـهُ: سے سخت سلوک کرنا یا برتاؤ کرنا۔ کو سختی سے جھڑکنا، پر عتاب کرنا۔ اَعنَفَ الامرَ: کو سختی سے لینا۔ ـ ہٗ: سے سخت برتاؤ کرنا، سختی سے پیش آنا۔ اِعتَنَفَ الامرَ: کو سختی سے لینا۔ العُنف و العَنف و العِنف: سختی، سنگدلی۔ الاَعنَف: سختی سے پیش آنیوالا۔ عُنفُوانُ الشباب و عُنفُوہٗ: ابتدائے جوانی، آغاز جوانی۔ عـنـفوان الخمر: شراب کی حدت۔ الجنسُ العَنیف: مردوں سے کنایہ۔ اس کے مقابل الجنس اللطیف ہے۔ جو عورتوں سے کنایہ ہے۔ الـمُـعـنَّـفَـة: درشتی کا سبب۔

۲۔ اِعـتَـنَـفَ الشئَ: کو شروع کرنا۔ العُـنـفَـة و العُنُفَة: ابتداء، شروع۔ اعتنف المجلسَ: مجلس سے چلا جانا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۴۔ تَعَنْفَصَ: ڈینگیں مارنا، شیخی بگاڑنا۔ (عام لوگ عَنْفَصَ کہتے ہیں)۔ صفت مُعَنْفِص۔

۵۔ العَنْفَقَة جمع عَنَافِق: داڑھی بچہ (تھوڑی اور نچلے ہونٹ کے درمیان کے تھوڑے سے بال)۔

عَنُفَ ہ/ علی/ ب: سے سختی، درشتی کا یا سخت سلوک یا برتاؤ کرنا، سے ناشائستہ سلوک یا برتاؤ کرنا۔ ــــ ہ/ ب: کو سرکاری طور پر سرزنش کرنا، کو ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھاڑ جھپاڑ کرنا، کو سخت ملامت کرنا، کی سخت مذمت کرنا، کو جھڑکنا، برا بھلا کہنا، سخت سست کہنا۔ اَعْنَفَ ہ: سے سختی سے پیش آنا، سے سخت سلوک کرنا، سے سخت برتاؤ کرنا، سے ناشائستہ سلوک یا برتاؤ کرنا۔ عُنف و عُنُف: سخت گیری، شدت، سختی، بدسلوکی، برا برتاؤ، اکھڑپن، کرختی، تشدد، جوش، تندہی، تلخی، طاقت کا استعمال۔ عنیف: سخت گیر، شدید، سخت، ناشائستہ، دنگے والا، کرخت، تشدد آمیز، تلخ، مار پیٹ پر اتر آنے والا، سخت محنتی، جفاکش، محنت طلب، جانفشانی کا، مشکل، سخت گیر۔ عُنْفُوَان: قوت، طاقت، کس بل، دم خم، جان، بہترین حصہ۔ فی عنفوان شبابہ: عالم شباب میں اَعْنَف: زیادہ سخت، زیادہ شدید، سخت تر، تندتر۔ تعنیف: سخت ملامت، زجر و توبیخ، سرکاری سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ، جھاڑ جھپاڑ۔

عنق: ۱۔ عَنِقَ ـَـ عَنَقًا: لمبی گردن والا ہونا۔ صفت اَعْنَق۔ عَنَّقَہٗ: کو گردن سے پکڑنا ــــ طَلْعُ النخل: کھجور کا شگوفہ لمبا ہونا ــــ علیه: چلنا اور کو گردن اٹھا کر دیکھنا۔ عَانَقَ مُعَانَقَةً ہ: کو گلے لگانا۔ اَعْنَقَ الکلبَ: کتے کو پٹہ ڈالنا ــــ الزرعُ: کھیتی کا اونچا ہونا، خوشہ نکالنا۔ تَعَنَّقَ الیربوعُ: جنگلی چوہے کا بل میں گھسنا۔ تَعَانَقَ الرجلان: ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ اِعْتَنَقَ الشيءَ: کو سختی سے پکڑنا، کے ساتھ رہنا۔ الرجلانِ: لڑائی وغیرہ میں ایک دوسرے کے گلے کو پکڑنا۔ العُنْق جمع اَعْنَاق (ع ا) گردن، گلا۔ (مذکر اور کبھی مونث)۔ العُنُق جمع اَعْنَاق: گلا (مذکر اور کبھی مونث) کہا جاتا ہے۔ کان ذلک علی عُنُقِ الدھر: یہ زمانہ قدیم سے تھا۔ لَہٗ عَنَق فی الخیر: اس کے لئے پہلے ہی نیکی میں سبقت ہے۔ ھُمْ عُنُق الیک: وہ تیری طرف مائل ہو کر رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں۔ ــــ من النبات: ڈنٹھل، ڈنڈی۔ عُنُقُ کل شیء: ہر چیز کا پہلا حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ مات فلانٌ فی عُنُقِ الصیف: فلاں موسم گرما کے ابتدائی حصہ میں مر گیا۔ قد اخذ بعُنُقِ الستین: وہ ساٹھ سال کے لگ بھگ پہنچ گیا۔ العُنُق: رئیس لوگ۔ العانقاء: جنگلی چوہے کا بل۔ العِنَاقِیَّة (ن): ایک پودا۔ الأعنق: لمبی گردن والا۔ العَنْقَاء جمع عُنْق: لمبی گردن والی۔ ٹیلہ کی چوٹی۔ ھضبةٌ عَنْقَاء: بلند اور لمبا ٹیلہ یا پہاڑی۔ العُنَیْق: چھوٹی گردن، چھوٹی ٹہنی، شاخ جس پر پھول ہو۔ العَنِیق: گردن، بغل گیر ہونے والا۔ المِعْنَاق جمع مَعَانِیق: عمدہ گردن والا گھوڑا۔ المُعْنِق جمع مَعَانِیق: سخت اور اونچی زمین۔ رجلٌ مُعْنِقٌ: لمبی گردن والا آدمی۔ المِعْنَقَة: پٹہ، ہار۔

۲۔ عَانَقَ مُعَانَقَةً و عِنَاقًا الابلُ: اونٹوں کا تیز چلنا۔ اَعْنَقَت الدابّةُ: جانور کا چوڑے قدم ڈال کر تیز چلنا۔ ــــ النجمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ ــــ ت البلادُ: ملک کا دور ہونا۔ العَنَق: جانور کی تیز چال۔ المُعْنِق جمع مَعَانِیق: تیز دوڑنے والا۔ المِعْنَاق جمع مَعَانِیق: عمدہ گردن والا گھوڑا۔

۳۔ اَعْنَقَ ت الریحُ: ہوا کا مٹی اڑانا۔

۴۔ العُنُق: جماعت۔ العَنَاق: سختی و محرومی، مصیبت۔ ــــ جمع اَعْنُق و عُنُوق (ح): بکری کی میمنی جو سال بھر کی نہ ہوئی ہو۔ عَنَاق الأرض (ح): (بلی کی قسم کا ایک شکاری جانور) سیاہ گوش، بن بلاؤ۔ العَنَاقَة: سختی و محرومی۔ العَنْقَاء: مصیبت۔ عَنْقَاءُ مُغْرِب و العنقاء المُغْرِب و المُغْرِبَة: ایک فرضی پرندہ۔ حلّقت به فی الجو عنقاءُ مُغْرِبٍ: وہ ہلاک ہو گیا، کالعدم ہو گیا۔

۵۔ عَنْقَشَ بالشيء: سے چمٹنا۔ تَعَنْقَشَ به: کے گرد لپٹنا، سخت ہونا۔

عَنَّقَ ہ: کو گردن سے پکڑنا، کو گریبان یا پٹہ سے پکڑنا، کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا، کو سختی سے پکڑنا۔ عَانَقَ ہ: سے گلے ملنا، کو گلے لگانا، کو آغوش لینا، سے ہم آغوش ہونا، کو پیار سے گلے لگانا، کا ہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنے آپ کو سے منسلک کرنا۔ تَعَانَقَ: ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ اِعْتَنَقَ ہ: کو گلے لگانا، سے ہم آغوش ہونا ــــ ہ: (عقیدہ، مذہب وغیرہ) کو اپنانا، قبول کرنا، اختیار کرنا، (یا مذہب) قبول کرنا، (نئے مذہب) میں آنا۔ ــــ ہ: کی طرف توجہ کرنا۔ اعتناق: ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ عِناق: معانقہ، گلے ملنا۔ معانقہ: گلے ملنا۔ عُنْقُود جمع عَنَاقِید: گچھا، انگور کا گچھا۔

عنك: ۱۔ عَنَكَ ـُـ عُنْكًا و عُنُوكًا الرملُ: ریت کا ڈھیر ہو کر بلند ہونا اور اس میں راستہ نہ ہونا۔ صفت عَانِك جمع عُنُك ــ الباب: دروازہ بند کرنا۔ ــ الرجلُ: زمین میں سفر کر [illegible] ڈالنا۔ اَعْنَکَ الرجلُ: ریت کے تودہ میں جا پڑنا۔ ــــ الباب: دروازہ بند کرنا۔ تَعَنَّکَ الرجلُ: ریت کا ڈھیر ہو کر بلند ہونا۔ اِعْتَنَکَ البعیرُ: اونٹ کا ریت میں گر کر پھنس جانا اور نکل نہ سکنا۔

۲۔ عَنَکَ ـُـ عُنْکًا و عُنُوکًا الفرسُ: گھوڑے کا حملہ کرنا۔

۳۔ العَنْکَبُوت جمع عَنَاکِب و عَنْکَبُوتَات (ح): مکڑی۔ العَنْکَب جمع عَنَاکب و عَنَاکِیب (ح): نر مکڑی۔ العَنْکَبَة و العَنْکَبَاة و العَکْنَبَاة جمع عَنَاکِب و عَنَاکِیب (ح): مادہ مکڑی۔ العَنْکَبُوتِیَات (ح): مکڑیوں اور بچھوؤں وغیرہ پر مشتمل گروہ۔

بیت (نسیج) العنکبوت: مکڑی کا جالا۔

عنم: عَنَّمَ البنانَ: پوروں کو عنم سے رنگنا، خضاب لگانا۔ اَعْنَمَ تِ الماشیةُ: جانوروں کا عنم گھاس چرنا۔ العَنَم (واحد عَنَمَة) (ن): ایک درخت جس کا پھل سرخ ہوتا ہے جس کے ساتھ رنگے ہوئے پوروں کو تشبیہ دیتے ہیں۔ انگور کی بیل کے دھاگے جو ٹی کی لکڑیوں سے لپٹ جاتے ہیں۔ العَنَمِیّ: سرخی جھلکتا خوبصورت چہرہ والا۔ العَنَمَة: انسان کے ہونٹ کی پھٹن۔

عنا: ۱۔ عَنَا ـُـ عَنَاءً و عُنُوًّا له: کے آگے جھکنا، کا فرماں بردار ہونا، صفت عَانٍ و عَنِیّ م عَانِیَة و عَنِیَّة ــــ عَنْوَةً: چیز کو زبردستی لے لینا، صلح سے لینا۔ ــــ و عَنِیَ ـَـ عَنًا فی القوم: کا قیدی ہو جانا۔ صفت عانٍ جمع عُنَاة م عَانِیَة و عَانِیات و عَوَانٍ عَنَّی۔ تَعْنِیَةً الرجلَ: کو قید کرنا۔ اَعْنَی اِعْنَاءً الرجلَ: کو ذلیل اور فرمانبردار کرنا۔

۲۔ عَنَا ـُـ عَنَاءً و عُنُوًّا الامرُ: کو غم میں ڈالنا۔ ــــ الامرُ علیه: پر دشوار ہونا۔ ــــ ت الامورُ بفلان: پر نازل ہونا۔

۳۔ عَنَا ـُـ عَنَاءً و عُنُوًّا الشيءَ: کو ظاہر کرنا۔ ــــ ت الارضُ بالنبات: زمین کا سبزی اگانا، کہا جاتا ہے۔ لم تَعْنُ بلادُنا بشيءٍ: ہمارے ملک میں کچھ نہیں اگتا۔ اعنی اِعْنَاءً ت الارضُ النباتَ: زمین کا سبزہ اگانا۔

۴۔ عَنَا ـُـ عَنْوًا الکتابَ: کتاب (خط وغیرہ) کا عنوان لکھنا، خط پر پتہ لکھنا۔

۵۔ العَانی: بہتا ہوا پانی یا خون۔ العِنْو و العِنا جمع اَعْنَاء: کنارہ، پہلو، گوشہ، کہا جاتا ہے: جاءنا اعناءٌ من الناس: ہمارے پاس مختلف قبائل کے لوگ آئے۔ [illegible] عَنْوَنَ عَنْوَنَةً الکتابَ: کتاب کا عنوان لکھنا، دیباچہ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لکھنا۔ عُنْوَانُ الکتاب و عِنوانُهُ و عُنْیانُه وعِنْیَانُهُ: کتا کا دیباچہ۔ عنوان کل شيء: جس کے ظاہر سے باطن کا حال معلوم ہو۔ کہتے ہیں: الظَّاهِرُ عنوانُ الباطل: ظاہر باطن کا آئینہ ہوتا ہے۔ عنوانُ الرسالة في اصطلاح الکتّاب: خط کی پشت یالفافہ پراس شخص کا نام وپتہ جسے وہ لکھا گیا ہو۔

عنا ـُ عُنُوًّا ل: کے سامنے عاجز ہونا، کافرمانبردار ہونا، تابع فرمان ہونا، کاحکم ماننا۔ ـُ عَنْوَةً ھ: کو زبردستی لے لینا، چھین لینا۔ ـ ـُ ہ: کے ذہن پر ہونا، کو پریشان کرنا، بے چین کرنا، تشویش میں ڈالنا، کو سوچ میں غرق کرنا، کے لئے اہم ہونا پراثر انداز ہونا۔ عُنْوة: طاقت، زبردستی، تشدد۔ عَنْوَةً: زبردستی، تشدد سے۔ عان: فرمانبردار تابع مطیع، قیدی، مصیبت میں مبتلا۔ عَنْوَنَ ھ: پرپتہ لکھنا، پرعنوان لگانا۔ عُنْوانًا ل/علي: کی نشانی کے طور پر۔

عني ١- عَنَى ـِ عَنَيَات الارضُ بالنبات: زمین کا سبزہ اگانا۔

٢- عَنَى ـِ عَنْيًا و عِنايَةً بماقاله كذا: سے (کوئی) مراد لینا۔ تَعَنَّى تَعَنِّيًا في الامر: میں میانہ روی اختیار کرنا۔ المَعْنَى جمع مَعَان: معنی، مراد مقصود۔ معنی الکلمة: کلمہ کا مدلول، معنی، مطلب، مفہوم۔ معنی الکلام: کلام کا مضمون، : المَعَاني: انسان کی محمودہ صفات۔ کہا جاتا ہے: فلان حسنُ المعاني: فلاں شخص صفات حسنہ کا مالک ہے۔ المُعَنَّى عند الزجّالين: گویوں کے منظوم کلام کی ایک قسم جس میں قافیہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور زبان کی درستی اور شعر کے وزن کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ المَعْنَوِيّ: معنی سے منسوب۔ مَعْنِيُّ الکلام ومُعْنَاتُهُ و مَعْنِيَّتُهُ: کلام کا معنی۔

٣- عَنَى ـِ عَنْيًا الامرُ لفلان: کو پیش آنا۔ ـ عَنَايَةً و عِنَايَةً و عُنِيًّا الامرُ فلانًا: کو مشغول کرنا، فکرمند کرنا۔ ـ عِنَايَةً اللّٰهُ به: اللہ کا کسی کی حفاظت کرنا۔ عُنِيَ عِنَايَةً و عُنِيًّا بالامر: میں مشغول ہونا، فکرمند ہونا، کی وجہ سے مشقت برداشت کرنا، صفت عَان و عَنٍ۔ عَنِيَ ـَ عَنَاءً: تھکنا۔ ـ عَنِّي بالأمر: کے بارے میں پریشان ہونا، میں مشغول ہونا، کی نگہداشت کرنا صفت: عانٍ وعَنٍ۔ عَنَّى تَعْنِيَةً واَعْنَى واِعْنَاءً ا الرجُلَ: کو تکلیف پہنچانا، کو دشوار بات کی تکلیف دینا۔ عَانَى مُعَانَاةً ت الهمومُ فلانًا: کو تفکرات کا پیش آنا۔ ـ الشيءَ: کی تکلیف برداشت کرنا۔ ـ الرجُلُ مالَهُ: مال کی حفاظت کرنا۔

ـ ہُ: کی مدارات کرنا۔ تَعَنَّى تَعَنِّيًا: تھکنا، نڈھال ہونا۔ ـ الامرَ: کو برداشت کرنا۔ ـ ت الحُمّىَ فلانًا: کو بار بار بخار آنا۔ اِعْتَنَى اِعْتِنَاءً الامرُ: واقع ہونا۔ ـ بالامر: کا اہتمام کرنا، کی پرواہ کرنا۔ العَنِي م عَنِيَة: اہتمام کرنے والا۔ العَنَايَة و العِنَايَة: اہتمام۔ العُنْيَة والعَنَاءُ والعَنَا: تھکن، کہا جاتا ہے: هو به اَعْنَى: وہ اس کا زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔ المُعَنَّى: جسے دشوار کام کرنے کیلئے کہا گیا ہو۔

٤- عَنَى ـِ عَنْيًا فيه الأكلُ فيه: میں کھانا مفید ہونا، خوشگوار اثر ڈالنا۔ عَنِيَ ـَ عَنًى الاکل فیه: بمعنی بالا۔

٥- عَنَّى تَعْنِيَةً و اَعْنَى اِعْنَاءً الکتابَ: کتاب کا دیباچہ لکھنا، کہا جاتا ہے: ما اَعْنَى شيئًا: اس نے کسی شے کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ العُنْيَان: عنوان۔

○ عَنَى ـِ عِنَايَةً ہُ: کے ذہن پر ہونا، کو بے چین کرنا، پریشان کرنا، کو سوچ میں غرق کرنا، کے لئے اہم ہونا، پراثر انداز ہونا، سے دلچسپی لینا۔

عَنَى ـَ عَنْيًا ھ: کو ذہن میں رکھنا۔ ـ ہ ھ ب: سے کا مطلب ہونا، کے معنی ہونا۔ یَعْنِي یا اعني: یعنی۔ عُنِيَ عِنَايَةً ب: کے بارے میں پریشان ہونا، متفکر ہونا، میں دلچسپی لینا، کی نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا، کا خیال رکھنا۔ عَنَّى ہ: کو سخت اذیت دینا، کو سخت کوفت پہنچانا، کو تنگ کرنا، دق کرنا، کو روحانی اذیت پہنچانا، ذہنی کوفت پہنچانا، کو مغموم کرنا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا، کو پریشان کرنا، زچ کرنا۔ عَانَى ھ: میں مشغول ہونا، میں سخت کوشش کرنا، پر کوشش صرف کرنا۔ ـ اَن: دیکھنا کہیں، خیال رکھنا کہ مبادا، کوشش کرنا کہ، ذہن میں رکھنا کہ، یقین کرنا کہ۔ ـ ھ: کو برداشت کرنا، کی مشکلات میں سے گزرنا۔ کی کڑیاں جھیلنا، کو مول لینا، اٹھانا، بھگتنا، کاٹنا، جھیلنا، بھوگنا، سہنا، برداشت کرنا، میں مبتلا ہونا۔ تَعَنَّى: محنت کرنا، مشقت کرنا، جان مارنا، جدوجہد کرنا، چاکری کرنا۔ اِعْتَنَى ب: کے بارے میں متردد ہونا، کا خواہاں ہونا، پر دل سے آمادہ ہونا، کا بڑا خیال رکھنا، کیلئے جان کھپانا، بڑی محنت کرنا، کے متعلق پریشان ہونا، کے لئے تشویش یا پریشانی محسوس کرنا، کی نگہداشت کرنا، کا خیال رکھنا، کے لئے کوشاں ہونا، کا سوچنا، کے لئے تیار رہنا، کا اہتمام کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی نگرانی کرنا، کا خیال رکھنا، کیلئے توجہ مخصوص کرنا، پر توجہ کرنا، کی تیمارداری کرنا۔ عِنَايَة: پریشانی، تشویش، قدرت یا رحمت الٰہی، فضل خدا، احتیاط۔ ـ ب: کا اہتمام، کے لئے تیاری، میں محنت، کی طرف توجہ، میں دلچسپی۔ العناية الالهيه: اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل۔ عِنَاية طبيه: طبی دیکھ بھال۔ اسم معنی: ذہنی اسم Abstract noun۔ علم المعانی: بلاغت، معانی، بیان۔ (Rhetoric) ذو معنی: معنی خیز، بکل معنی الکلمة: لفظ کے مکمل مفہوم میں۔ لا معنی له: بے معنی، بیہودہ، بکواس، وما في معناه: اور ایسی ہی باتیں، وغیرہ وغیرہ، نظرات کلها معان: پرمعنی نظریں۔ مَعْنَوِي: کسی لفظ یا عبارت کے مفہوم یا اہمیت کے متعلق (لفظي کے مقابل)۔ معنی سے متعلق، مثالی، مجرد، ذہنی، روحانی (بمقابل مادی)۔ شخص معنوی: مصنوعی، روحانی، یا فقہی شخص۔ معنویات: مثالی غیر مادی اشیاء (فوج کا) حوصلہ، جوش ولولہ۔ مُعَانَاة: کوشش، کوششیں۔ تَعَفُّن: محنت، مشقت، چاکری۔ اِعتناء ب: کے لئے اہتمام، کے لئے تشویش، پر توجہ کو اصلی حالت میں یا چالو رکھنا، کی پرورش، کی ترقی کی نگہداشت، کا خیال، کی دیکھ بھال، پر توجہ میں دلچسپی۔ عانٍ: بہت بری حالت میں، سخت غم زدہ، مصیبت زدہ، مشکل میں پھنسا ہوا۔ مَعْنِي ب: میں دلچسپی لینے والا۔

عهد ١- عَهِدَ ـَ عَهْدًا الامرَ: کو پہچاننا۔ ـ الشيءَ: کی حفاظت کرنا، کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ ـ اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا۔ ـ فلانٌ وعدَهُ: وعدہ کی حفاظت کرنا اور پورا کرنا۔ ـ إلى فلان: کو وصیت کرنا سے شرط لگانا۔ ـ اليه في كذا: کے بارے میں کو وصیت کرنا اور ذمہ دار بنانا۔ عَاهَدَهُ: سے معاہدہ کرنا، کو حلیف بنانا۔ اَعْهَدَ فلانًا من كذا: کو کا امین بنانا، کو سے بری کرنا، کی سے کفالت کرنا۔ اعهدُكَ من هذا الامر: میں اس معاملہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ تَعَهَّدَ و اِعْتَهَدَ الشيءَ: کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ کے بارے میں تجدید عہد کرنا۔ ـ املاكَهُ: اپنے املاک کی حفاظت واصلاح کرنا۔ تَعَاهَدَ القومُ: ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا۔ الشيءَ: کی حفاظت کرنا۔ ـ املاكَهُ: اپنے املاک کی حفاظت اور اصلاح کرنا۔ اِسْتَعْهَدَ فلانٌ من صاحبه: سے عہد لینا۔ ـ فلانًا من نفسه: کو اپنے حوادث نفس کا ذمہ دار ٹھہرانا۔ العهد (مص) جمع عُهُود: وفا، ضمان، امان، ذمہ، دوستی، وصیت، معاہدہ، قسم (کہا جاتا ہے: عليّ عهدُ اللّٰه لأفعلنّ كذا: قسم بخدا میں ایسا کروں گا) شاہی فرمان، وہ مقام جہاں کسی کو دیکھے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بارے میں عہد کیا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے: **عهدی به انه کریمٌ**: میرے علم میں وہ کریم النفس ہے۔ **هو قریب العهد بکذا**: وہ قریب العلم یا قریب الحال ہے۔ **کان ذلك فی او علی عهد فلان**: یہ فلاں کے زمانہ میں ہوا تھا۔ **العهد القدیم**: بائبل کی وہ کتابیں جو مسیح علیہ السلام سے پہلے لکھی گئیں۔ **العهد الجدید**: دین کی وہ کتابیں جو حضرت عیسیٰ کے بعد لکھی گئیں۔ **ولیُ العهد**: جو بادشاہ کی وفات کے بعد اس کی جگہ لے۔ **العَهِد**: عہد سے پسند کرنے والا۔ معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔ **العُهُدَة**: ضمانت، کفالت۔ کسی چیز کی اصلاح کی طرف واپسی، کہا جاتا ہے۔ **لی فی الامر عُهْدَة**: میں معاملہ کی اصلاح کے لئے عنقریب لوٹوں گا۔ لبنانی شیخ کے ملاقہ کو **عُهْدہ** کہتے تھے۔ **العهُدان**: ضمانت۔ کفالت۔ **العَهِید**: معاہدہ کرنے والا۔ معاہدہ شدہ۔ پرانا **قریة عهیدة**: پرانا گاؤں۔ **المَعْهَد** جمع **مَعَاهِد**: جگہ جہاں کوئی چیز پائی جائے۔ وہ جگہ جہاں لوگ واپس آتے ہوں۔ **المَعْهُود (مفع)**: معروف ومشہور۔

۲۔ **عَهِدَ ـــ عَهْدًا فلانًا بمکان کذا**: فلاں سے فلاں جگہ ملاقات کرنا۔ **العَهْد**: جمع **عُهُود (مص)**: کہا جاتا ہے: **عَهْدِی به قریب**: میں اس سے چند روز قبل ملا تھا۔ **متی عهدُك بفلان**: آپ فلاں سے کب ملیں گے۔

۳۔ **عُهِدَ المکانُ**: کسی جگہ میں موسم ربیع کی پہلی بارش ہونا۔ **العَهْد والعَهْدَة وَالعِهْدَة** ج **عِهَاد والعِهَادَة**: موسم ربیع کی پہلی بارش۔

۴۔ **العُهْدَة**: خط یا عقل میں نقص یا کمزوری کہا جاتا ہے: **فی خطه عُهْدَة**: اس کا خط ردی ہے۔

۵ **عَهِدَ ـ عَهْدًا** ہ/ہ کو جاننا۔ ـــ ہ: (کی) قسم کا علم ہونا۔ ـــ ب: کا امتیازی وصف جاننا۔ ـــ ہ/ ہ: سے واقف ہونا، سے آگاہ ہونا۔ ـــ ہ: کا قریب سے مشاہدہ کرنا، کو بغور دیکھنا، پر کان دھرنا، کی طرف توجہ دینا، پر توجہ کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، ـــ **إلی ب**: کو کچھ سونپنا، تفویض کرنا، کے سپرد کچھ کرنا۔ کے سپرد کوئی کام کرنا، کو کوئی کام دینا یا سونپنا یا تفویض کرنا، کو کسی کام کا اختیار دینا، پر کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری ڈالنا۔ کو کوئی کام کرنے کا ذمہ دار بنانا۔ **فیما أَعْهَد**: میرے علم کے مطابق، جہاں تک میں جانتا ہوں۔ **عَهَد وعدَه**: اپنا وعدہ پورا کرنا۔ **عَاهَده علی**: سے کے بارے میں معاہدہ کرنا، سے کا وعدہ کرنا۔ ـــ ہ ب: سے کا وعدہ کرنا، ـــ ہ علی: سے کچھ کرنے کا ذمہ لینا۔ **تَعَهَّد** ہ: کی وکالت کرنا، تائید کرنا، کی حمایت کرنا، کے حق میں بولنا، کے لئے جدوجہد کرنا، کو بغور دیکھنا، کی طرف توجہ کرنا، کو ذہن میں رکھنا، پر توجہ دینا، کی حفاظت کرنا، کا خیال رکھنا، کو صحیح حالت میں رکھنا، برقرار رکھنا، کو برقرار رکھنے کا قانونا ذمہ دار ہونا، کیلئے جوابدہ ہونا۔ کا ذمہ لینا۔ ـــ ل ب: سے کا وعدہ کرنا، عہد کرنا۔ (یا علی ان کے صلہ کے ساتھ یہی معنی) ـــ ل ب: سے کا وعدہ کرنا۔ **اِسْتَعْهَدَ مِن**: سے تحریری عہد، قول، عہد و پیمان یا وعدہ ذمہ داری لینا، سے معاہدہ پر دستخط کرانا۔ **عَهْد** علم۔ واقفیت، شناسائی، عہد، معاہدہ (ب سے، کے ساتھ) ـــ: (کسی شخص کی) مشہور اور جانی پہچانی طبیعت، افتاد طبع، مزاج۔ وعدہ نبھانا، پورا کرنا، بغور مشاہدہ، (سے) سخت وابستگی۔ (**ب الی**) کو کی تفویض، جمع **عهود**: ذمہ داری، وعدہ ذمہ داری، فرض، احساس ذمہ داری، وعدہ، عہد و پیمان، قول و قرار، قسم، وعدہ، معاہدہ۔ اقرارنامہ، وقت، دور، زمانہ، **بُعد العهد** ماضی بعید سے تعلق بمعنی **حدیث العهد**۔ حال کا، حالیہ، نیا، تازہ نوجوان، **حدیث عهد ب** یا **حدیث العهد ب**: جس نے حال ہی میں کسی چیز کو اختیار یا حاصل کیا ہو۔ جو کسی چیز یا کام کا دیرینہ عادی نہ ہو۔ جسے کسی چیز یا کام کا تجربہ نہ ہو، کسی چیز یا کام میں نیا یا نیا نیا۔ **حدیث عهدٍ بعُرسٍ**: نیا شادی شدہ۔ **حدیثُ العهد بالولادة**: نومولود۔ **کان حدیث عهد باوروبا**: اسے یورپ کے متعلق حال ہی میں معلوم ہوا تھا۔ **قدیم العهد**: پرانا، قدیم عہد کا۔ **دیمُ العهد ب**: میں طویل تجربہ کار، سے دیرینہ واقف، آگاہ شناسا، **قریبُ عهد ب** اور **قدیمُ العهد ب**: دیکھئے **حدیث عهد ب** اور **حدیث العهد ب**: **قریب عهد بالفطام**: (بچہ) جس کا دودھ حال ہی میں چھڑایا گیا ہو، نیا نیا دودھ چھڑایا ہوا (بچہ)۔ **منذ عهدٍ بعید**: بہت عرصہ پہلے۔ **لاعهدَ له به**: کو نہ جاننا، کا تجربہ نہ ہونا، سے ناواقف، نا آشنا ہونا۔ **عهدُنا بهذه المسالة**: اس مسئلہ سے ہماری مدتوں کی یا پرانی آگاہی ہے۔ **اخذ عهدا علیه**: سے وعدہ لینا، **قطع عهدا**: معاہدہ طے کرنا، وعدہ کرنا۔ **قطع نفسه عهدا عل**: فرض ذمے لینا، ذمہ داری لینا، عہد کرنا۔ **عهدب**: کرنے کا عہد کرنا، کرنے کی قسم کھانا۔ **ولی العهد**: واضح وارث، ولی عہد۔ **علی عهده**: کے عہد میں، کے زمانہ میں [illegible] دوران، کے عہد یا دور میں۔ **عِهْدُه**: کا مانوس مزاج یا انداز، کی معروف طبیعت **ظلّ کعهده**: وہ پہلے کی طرح رہا، جیسا ہر شخص اسے جانتا آیا تھا۔ **عهدُهم به**: کی طبیعت یا انداز جس کے متعلق لوگ جانتے تھے یا ہیں، جس کے لوگ عادی تھے یا ہیں۔ **کعهدهم به**: جیسے وہ اسے جاننے کے عادی ہیں۔ **مازلت انت کعهدی بك**: تم ابھی تک وہی ہو۔ **مازال علی عهده**: تبدیل نہ ہونا۔ ہمیشہ کی طرح ہونا۔ **طال به العهدُ**: عرصہ دراز تک جاری رہنا، رہنا، جاری رہا، رہا۔ **عُهْدَة**: ٹھیکہ یا معاہدہ کی ذمہ داری، ذمہ داری، زیر نگرانی کام۔ حفاظت، نگرانی، تحویل، سرپرستی، ضمانت نامہ، کفالت نامہ، **فی عُهدته**: کی نگرانی، ذمہ داری، حفاظت، تحویل میں، کے سپرد کیا ہوا، کی تحویل میں دیا ہوا، **عهدته علیه**: وہ اس کا ذمہ دار ہے وہ کیلئے جوابدہ ہے۔ **عَهِید**: کسی کا شریک کار (خصوصاً برے کاموں میں)۔ **مَعْهَد مع مَعَاهِد**: جگہ، آبادی، جسے وہ پہلے سے جانتا تھا یا جہاں وہ دوبارہ جاتا ہے۔ عوامی تنظیم، ادارہ (Public institute or instituion) سائنسی تنظیم، حلقہ درس Seminar۔ **معَاهِدُ الذِکرَیات**: یادوں سے پر مقامات۔ **معهدٌ اِصْلَاحیٌ**: اصلاحی قید خانہ (Reformatory)۔ **مُعَاهَدہ** جمع **مُعَاهدات**: میثاق، عہد نامہ، تصفیہ، اتفاق رائے، اتفاق حلف، معاہدہ۔ **معاهده السلام (الصلح)**: معاہدہ امن۔ **معاهدة عدم الاعتداء**. عدم جارحیت کا معاہدہ۔ **تَعَهُّد**: وکالت، حمایت، تائید، حفاظت، زیر نگرانی کام، نگرانی، تحویل، سرپرستی، (پر) پابندی، دیکھ بھال، نگہداشت، اچھی حالت میں رکھنا۔ ـــ ب: کا ذمہ لینا۔ جمع **تعهدات**: وعدہ، عہد قول، عہد و پیمان، ذمہ داری، ملاقات کا وعدہ، فرض، ذمہ داریاں، ٹھیکہ یا معاہدہ کا فرض۔ **معهود**: مشہور۔ **المعهود**: مذکورہ۔ **مُتَعَهِّد** جمع **مُتَعَهِّدُون**: ٹھیکیدار۔ **متعهد فنی**: مشہور فنکار (impresario) **المُتَعَاهِدان**: دونوں فریق (ٹھیکہ دینے اور لینے والا)۔

عهر: **عَهَرَ ـــ عَهْرًا و عِهْرًا عُهُورًا و عَهَارَةً وعُهُورَةً و عِهِرَ ـ عَهَرًا المرأة**: بدکاری کیلئے عورت کے پاس جانا، سے بدکاری کرنا، زنا کرنا، صفت۔ **عَاهِر** جمع **عُهَّار** م **عَاهِر** جمع **عَوَاهِر**۔ **عَاهَرَ عِهَارًا ها**: کے پاس زنا (بدکاری) کے لئے جانا۔ **العَهِر**: بدکار، زانی، زنا کار۔ [illegible] **ـــ عَهْرًا وعَهِرَ ـ عَهَرًا الیها**: عورت کے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ساتھ بدکاری کرنا، سے زنا کاری کرنا، عَاهَرَ ها: عورت کے ساتھ بدکاری کرنا، زنا کاری کرنا، عِهر: بدکاری، زنا، زنا کاری، عَهْر: بدکار، زانی، زنا کار۔ عَهَارَة: بدکاری، زنا کاری۔ عَاهِر: بدکار، زنا کار جمع عُهَار۔ ۔ جمع عواهر: بدکارعورت، زنا کارعورت۔ طوائف، زنڈی، بیسوا، کسبی۔ عَاهِرة جمع عَاهِرات و عواهر: بدکارعورت، زنا کارعورت، طوائف، زنڈی، بیسوا، کسبی۔

عهل: العاهِل جمع عَواهِل: بڑا بادشاہ، بے خاوند عورت۔ ○ عَاهِل جمع عَواهِل: مطلق العنان، شہزادہ، حاکم، فرمانروا، بادشاہ، شہنشاہ۔

عهن: ا۔ عَهَنَ ـُ عُهُنًا بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــــ من المکان: کسی جگہ سے نکل جانا۔ ــــ الشئُ: ہمیشہ ہونا، مستحکم ہونا، غیر تغیر پذیر ہونا۔ عَهِنَ ـَ عَهَنًا الشیءُ: حاضر ہونا، موجود ہونا۔ العاهِن: مستحکم، غیر تغیر پذیر، حاضر، موجود۔ مالٌ عاهِنٌ: موجود اور غیر تغیر پذیر مال، کہا جاتا ہے: هو عِهْنَ مال: وہ مال کا اچھا منتظم ہے۔

۲۔ عَهَنَ ـُ عُهْنًا فی العمل: میں کوشش کرنا۔ لفلان مرادَهُ: کی مراد کو جلدی پورا کرنا۔ عَهِنَ ـَ عَهَنًا له کذا: کو کیلئے جلدی کرنا۔ العَاهِن: جلدی کرنے والا۔

۳۔ عَهَنَ ـُ عُهْنًا إلی فلان: سے عہد لینا۔

۴۔ عَهَنَ ـُ عُهُونات جرائدُ النخل: کھجور کی شاخوں کا خشک ہونا۔ العَوَاهِن: عَاهِنه کی جمع: درخت خرما کی خشک شاخیں۔ کہا جاتا ہے: رمی الکلامَ علی عواهِنِهِ: اس نے جو کچھ منہ میں آیا کہہ ڈالا اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ غلط ہے یا صحیح۔

۵۔ عَهَنَ ـِ عَهْنًا القضیبُ: شاخ کا لچکنا اور ٹوٹنے کے قریب ہونا۔ العُهْنَةُ: شاخ کی لچک جو ٹوٹنے کے قریب ہو۔ العَاهِن (فا): فقیر، ڈھیلا، کاہل۔

۶۔ العِهْن جمع عُهُون: اون، رنگی ہوئی اون۔ العِهْنَة: (رنگی ہوئی) اون کا ٹکڑا۔ (ن): سرخ پھولوں والا درخت۔

○ عِهْن: (رنگی ہوئی) اون۔ عواهِن (عاهِن کی جمع) (جسم کے) بازو اور ٹانگیں، ہاتھ پاؤں، کھجور کی شاخیں: القی (رمی) الکلام علی عواهنه: بلا پابندی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی ہانکنا، بے ربط گفتگو یا تقریر کرنا۔

عاث: عَاثَ ـُ عَوْثًا فلانًا عن کذا: کو سے ہٹانا یہاں تک کہ متحیر ہو جائے۔ عَوَّثَ ہٗ: کی راہمیں روڑا اٹکانا، کو آہستہ کرنا۔ فلانًا عن کذا: کو سے ہٹانا، پھیرنا۔ تَعَوَّث: متحیر ہونا۔ المَعَاث: مذہب، مسلک، گنجائش، کہا جاتا ہے: اِنَّ لِی عن هذا الامر لمَعَاثًا: میرے لئے اس میں گنجائش ہے لہٰذا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔

عاج: ا۔ عَاجَ ـُ عَوْجًا و مَعَاجًا بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــــ فلانًا بالمکان: کو کسی جگہ میں اقامت کرانا۔ ــــ السائر: ٹھہر جانا، رک جانا۔ المَعَاج (مص): ٹھہرنے کی جگہ۔

۲۔ عَاجَ ـُ عَوْجًا و مَعَاجًا الی اوعلی المکان: کسی جگہ کی طرف مائل ہونا اور متوجہ ہونا۔ ــــ فلانٌ عما عزم علیه: پختہ ارادہ سے رجوع کرنا اور اسے ترک کر دینا۔ ــــ البعیرَ: اونٹ کو لگام سے پھیرنا۔ کہا جاتا ہے: ما اَعُوجُ بکلامه: میں اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ ــــ الیه: کی طرف مائل ہونا۔ عَوِجَ ـَ عَوَجًا العودُ و نحوهُ: لکڑی وغیرہ کا ٹیڑھا ہونا۔ ــــ الانسانُ: بدخلق ہونا۔ صفت اَعْوَج۔ ــــ عَوَّج تَعْوِیجًا العُودَ و نحوَهُ: لکڑی وغیرہ کو ٹیڑھا کرنا۔ صفت مفعولی مُعَوَّج۔ ــــ النَاقَةَ: اونٹنی کو پھیرنا۔ ــــ ہٗ عن الشئ: کو سے باز رکھنا۔ تَعَوَّجَ تَعَوُّجًا و اعْوَجَّ اِعْوِجَاجًا العودُ: لکڑی کا ٹیڑھا ہونا۔ ــــ الشئُ: غیر متوازن ہونا۔ اِنْعَاجَ اِنْعِیاجًا علیه: کی طرف مڑنا۔ العِوَج: عَوِج کا اسم: ٹیڑھا پن، پیچیدگی، عدم استقامت۔ العَوْجَاء جمع عُوْج: اَعْوَج کا مونث۔ کمان دبلی اونٹنی۔ المَعَاج (مص): ٹھہرے کی جگہ۔

۳۔ عَوَّج تَعْوِیجًا العصا ونحوها: لاٹھی وغیرہ میں ہاتھی دانت جڑنا۔ صفت مفعولی مُعَوَّجة: ہاتھی دانت جڑی ہوئی لاٹھی۔ العاج: ہاتھی دانت۔ العاجة: ہاتھی دانت کا ٹکڑا۔ العَوَّاج: ہاتھی دانت بیچنے والا۔ ہاتھی دانت کا مالک۔

○ عَوِجَ ـَ عَوَجًا: ٹیڑھا ہونا، پیچ دار ہونا، موڑ والا ہونا، مڑا ہوا یا موڑا ہوا ہونا، بٹا ہوا یا بل دیا ہونا۔ پیچیدہ یا پیچ در پیچ ہونا، جھکا ہوا ہونا۔ عَاجَ ـُ عوجًا: سفر کرتے ہوئے راستہ سے ہٹ جانا۔ ــــ علی: میں، پر ٹھہرنا۔ عَوَّجَ ہٗ: کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا، بٹنا، بل دینا، عِوَج: ٹیڑھا پن، حق سے انحراف، عاج: ہاتھی دانت۔ عاجی: ہاتھی دانت کا۔ اَعْوَج م عَوْجَاء جمع عُوج: ٹیڑھا، بٹا ہوا، بل دیا ہوا، بٹا ہوا، ترچھا، عجیب سا، عجیب۔ اعوجاج: ٹیڑھا پن، ناہمواری، اونچ نیچ، حق سے انحراف۔ مُعَوَّجَة جمع مُعَوَّجات: قرنبیق۔ مُعَوّج: ٹیڑھا، عجیب سا، عجیب، پیچ دار، پیچیدہ، پیچ در پیچ، مڑا ہوا۔

عود: ا۔ عَادَ ـُ عَوْدًا ہٗ: کو ہٹانا۔ و ــــ السائِلَ: سائل کو واپس کرنا۔ لوٹا دینا۔

۲۔ عَادَ ـُ عَوْدًا فلانًا بالمعروف: سے احسان اور بھلائی کرنا۔ ــــ ہٗ: کو عادت بنالینا۔ ــــ عَوْدًا و عَوْدَةً و مَعَادًا لکذا او الی کذا: کی طرف مائل ہونا، اعراض کے بعد کی طرف واپس ہونا، کہا جاتا ہے: عاد علیَّ من فلان مکروهٌ: فلاں کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی۔ ــــ عَوْدًا و عِیادًا الشئَ: کو دوباہ کرنا۔ اسی سے ضرب المثل ہے۔ العَوْدُ اَحْمَدُ: کوئی کام دوبارہ کرنا زیادہ اچھا ہے۔ ــــ الامرُ کذا: کچھ ہو جانا۔ یہ افعال ناقصہ سے ہے۔ کبھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کیلئے آتا ہے۔ جیسے: عاد فلانٌ شیخا: فلاں جواں سے بوڑھا ہو گیا۔ ــــ عَوْدًا و عِیادًا و عِیادَةً و عَوادةً المریضَ: بیمار پرسی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا۔ صفت عائِد جمع عُوَّاد اور عُوْد و عَوْدم عائدة جمع عُوَّد اور مریض کو مَعُود و مَعْوُود کہتے ہیں: یعنی وہ بیمار جس کی عیادت کی گئی ہو۔ عَوَّدَ فلانًا کذا: کو کسی چیز کا عادی بنانا۔ عَیَّد تعییدًا: عید میں حاضر ہونا۔ عَاوَدَ مُعَاوَدَةً و عِوَادًا الرجُلُ: پہلے معاملہ کی طرف واپس ہونا۔ ــــ الشئَ: کو اپنی عادت بنالینا، کہا جاتا ہے: عَاوَدَتْهُ الحُمَّی: کو بار بار بخار آنا۔ عَاوَدَہ بالمسالةَ: سے بار بار سوال کرنا۔ عَایَدَہٗ: کو عید کی آمد کی مبارکباد دینا۔ أَعَادَ اِعَادَةً الامرَ او الکلامَ: معاملہ یا گفتگو کو دوہرانا۔ ــــ الشئَ إلی مکانه: کو اس کی جگہ لوٹانا۔ ــــ الشئَ: کو عادت بنالینا اور اس کو برداشت کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مایُعید و مایبدیٔ: وہ کوئی حیلہ نہیں کر سکتا۔ رایتُ فلانًا مایبدیٔ و مایعید: میں نے فلاں شخص کو دیکھا جو کچھ بات نہیں کرتا۔ تعَوَّدَ تعَوُّدًا الشئَ: کو اپنی عادت بنالینا، کا عادی ہو جانا۔ ــــ المریضَ: بیمار پرسی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا۔ تعَاوَدَ القومُ فی الحرب: جنگ میں ہر فریق کا اپنے ساتھیوں کی طرف واپس لوٹنا۔ اِسْتَعَادَ اسْتِعَادَةً ہٗ: سے لوٹنے کی درخواست کرنا۔ ــــ الشئَ: کا عادی ہونا، خوگر ہونا۔ ــــ الشئَ فلانًا و من فلان: سے چیز لوٹانے کو کہنا۔ العائِدَة جمع عَوَائِد: بھلائی، صلہ، مہربانی، منفعت۔ ــــ جمع عُوَّد و عَوَائِد و عَائِدات: عائد کا مونث۔ العَوْد (مص): پرانا راستہ، کہا جاتا ہے: رجع عَوْدًا علی بدء یا رجع عَوْدُهُ علی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بَدْئِہِ: اس کا سفر ختم نہیں ہوا تھا کہ واپس آ گیا۔ العَوَاد: بھلائی کا کام، مہربانی، کہا جاتا ہے: ان لك عندنا عَوَادًا حسنًا: تمہارے لئے ہمارے پاس وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ (عواد تثلیث عین کے ساتھ آتا ہے) العُوَادَة (مص): کھانا جو ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ مہمان کے لئے لایا جائے۔ کہا جاتا ہے: لك العُوَادَة یالك العَوْد و العَوْدَة: تمہیں حق حاصل ہے کہ وہی کام اور دوبارہ کرو۔ العِیْد: بار بار آنے والی بیماری، غم یا فکر وغیرہ۔ اس کی اصل عِوْد جمع اعیاد: موسم، ہر وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے واقعہ کی یاد منائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے عید اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال نئی خوشیوں کے ساتھ لوٹ کر آتی ہے۔ العَادَة جمع عَادات و عاد و عِید و عَوَائد: عادت، گویا عَوَائِد عائِدة کی جمع ہے۔ العَادِیّ جمع عَادِیّات: جس کام کی عادت ہو۔ الأَعْوَد: زیادہ نفع بخش، کہا جاتا ہے: ھذا أعْوَدُ علیك: یہ تمہارے لئے سب سے مفید ہے۔ المَعَاد (مص): لوٹنے کی جگہ آخرت، جنت، حج۔ و المَعَادَة جمع مَعَاوِد: رونے، نوحہ کرنے کی جگہ۔ المُعِید (فا): حاذق، ماہر، تجربہ کار۔ معاملات کو جاننے والا، بار بار جہاد کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ مُبْدِئٌ مُعِید: سدھایا ہوا گھوڑا۔ المُعَاوِد (فا): ہمیشہ کرنے والا، اپنے کام میں ماہر، جوانمرد، ہیرو۔

۳- عَوَّدَ البَعِیرُ: اونٹ کا بوڑھا ہو جانا۔ ـــ الرجُلُ: عمر رسیدہ ہونا۔ العَوْد جمع عِوَدَة: بوڑھا اونٹ، بوڑھی بکری۔

۴- عاد: عرب بائدہ کا ایک شخص، قبیلہ جو اس کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے: ما ادری ایُّ عادھو: مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے۔ العَادِیّ جمع عادیّات: قبیلہ عاد کی طرف نسبت سے قدیم اقوام کے کھنڈرات۔ پرانی چیز۔ العُوْد جمع عیدان و اَعْوَاد و اَعْوُد: لکڑی۔ کٹی ہوئی ٹہنی۔ ایک قسم کی خوشبو جس کو بطور بخور استعمال کرتے ہیں۔ زبان کی جڑ کی ہڈی۔ (مو): سارنگی، کہا گیا ہے کہ اس کا لفظ عبرانی عُوْجَب سے بنایا گیا ہے۔ جس کا معنی محبوب ہے۔ عود الصلیب (ن) وعود القرح۔ عود الانجبار: پودوں کے نام عَوَّاد (مو): سارنگی بجانے والا۔ المُتَعَیِّد: غضبناک، سخت ظالم۔

○ عَادَ ـُ عَوْدًا و عَوْدَةً و مَعَادًا لِ / الی: کی طرف لوٹنا، واپس آنا۔ ـــ: واپس بہہ جانا۔ ـــ الی: کے پاس واپس جانا، لوٹنا، سے سراغ ملنا، سے منسوب ہونا۔ پر محمول کرنا، کی طرف واپس آنا، کی طرف پلٹ کر آنا، سے متعلق ہونا، کے حصہ میں آنا، کے لئے مناسب ہونا۔ عن: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سے پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، سے مستعفی ہونا، دستبردار ہونا، عادب۔ کے ساتھ لوٹنا، کو واپس لانا، کو واپس کرنا۔ عاد علیه ب: کیلئے کا باعث ہونا، کے لئے لازمی یا قدرتی نتیجہ ہونا، کے لئے کا انجام ہونا، نتیجہ ہونا، کوئی چیز کسی کو واپس کرنا۔ ـــ ہ: ہو جانا، کو میں تبدیل کرنا۔ عاد الی نفسه: ہوش میں آ جانا، اپنے آپ سے مشورہ کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے گریبان میں جھانکنا۔ عادت المیاہ الی مجاریھا: صورت حال معمول پر آ گئی۔ عاد الی رأس امرہ: کسی کام کو دوبارہ کرنا۔ عاد ادراجه: جس راہ سے آیا ہو اسی راہ پر جا تا واپس چلا جانا۔ عاد علی عقبیه جمع عادوا علی اعقابھم: واپس چلے جانا۔ لم اعد استطیع صبرا: میں مزید صبر نہیں کر سکا۔ لم یعدله طاقة به: اس کے پاس ایسا کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ لم یعد الیه سبیل: اس کا اب کوئی امکان نہیں رہا۔ عاد یقول: رک کر پھر کہنے لگنا۔ عَوَّدہ ہ ہ / علی: کو کا عادی بنانا۔ عاوَدَہ / ہ: کی طرف لوٹنا۔ ـــ ہ: کی طرف لوٹنا، نئے سرے سے کوشش کرنا، کو دوبارہ یا پھر شروع کرنا۔ ـــ ہ: کو دوبارہ آ لینا، دبوچ لینا (جیسے بیماری کا)۔ ہ: سے آ ملنا۔ اَعَادہ ہ إلی: کو کی طرف واپس کروانا، کو کے پاس واپس لانا، کو کی طرف واپس لیجانا، کو۔ کو واپس کرنا، کو۔ کو واپس دینا، کو۔ کو واپس بھیجنا۔ ہ الی محله: کو اس کی جگہ واپس رکھنا۔ ہ علی: کو کے سامنے دوہرانا۔ ـــ ہ: کو دوبارہ کرنا یا ازسرنو کرنا، کو دہرانا، کو بار بار کہنا، دہرانا، کو نیا بنانا، کی تجدید کرنا، کو پھر شروع کرنا۔ ـــ ہ: کو کوئی چیز واپس دینا، کو ایک بار پھر بنانا۔ ہ: کو بحال کرنا، اعاد بناء مسجد: مسجد کی دوبارہ تعمیر کرنا۔ اعاد ذکریات: یادیں تازہ کرنا۔ اعاد طبع الکتاب: کتاب کو دوبارہ چھاپنا۔ یُعید القولَ و یبداُہ: وہ اس کے بارہ میں کہتا رہتا ہے، وہ موضوع پیش کرنا جاری رکھتا ہے۔ اعاد النظر فی: کا دوبارہ جائزہ لینا، کی دوبارہ تحقیق کرنا، پر دوبارہ غور کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا، کا جائزہ لینا، کی تنقیح کرنا، کو جانچنا، کی تصدیق کرنا، پر نظر ثانی کرنا، کا دوبارہ مطالعہ کرنا، اعاد النظر فی الدعوی: مقدمہ کی دوبارہ سماعت کرنا۔ تَعَوَّد ہ / علی: کا عادی ہونا، کو اپنی عادت بنا لینا۔ کو کرتے رہنا۔ اعتاد [illegible]

marfat.com

کرنا۔ ـــ ہ من: سے کی واپسی کا مطالبہ کرنا، سے کی واپسی کی درخواست کرنا۔ ـــ ہ: کو دوبارہ لے لینا، کو دوبارہ پا لینا، کو بحال کرنا، کو دوبارہ فتح کرنا، کو واپس لانا، لے آنا، اٹھا لانا، کو دوبارہ حاصل کرنا (گھاٹا) پورا کرنا، (کھوئی عزت) دوبارہ پانا، کو یاد کرنا، کو دوبارہ ذہن میں لانا۔ ـــ ہ / ہ: سے کو دہرانے کیلئے کہنا۔ عُوْد جمع اَعْواد و عیدان: لکڑی، ٹہنی، شاخ، چھڑی، بید، چھڑی، ڈنڈا، لاٹھی، لٹھ، کھمبا، جریب، تنہ، ڈنڈی، ڈنٹھل، بید، اوکھ، ایکھ، گنا، نرسل، نے۔ لوت (Lute) جسم، بناوٹ، جسم کی ساخت، طاقت، قوت، زور، شدت، جمع اعواد: پوری شدت (جیسے بیماری کی) عُود الثِقاب: ماچس، ماچس کی تیلی۔ عود الکبریت: ماچس، ماچس کی تیلی، رخاوة العود: کردار کی کمزوری۔ صُلْبُ العود: مضبوط جسم والا، مضبوط جسمانی ساخت والا، ہٹا کٹا، موٹا تازہ، قوی ہیکل، ضدی، سرکش، ہٹ دھرم، مزاحمت کرنے والا، نہ ماننے والا، سخت، نہ جھکنے والا، بے رحم، بے درد۔ صَلَابَةُ العُود: سختی، سخت گیری، شدت، ضد، ہٹ دھرمی، بے لوچ ہونا، غیر فہم پذیری، بے رحمی، بے دردی۔ لَدْنُ العُود: لچکدار، ملائم جسم والا۔ ثَقَّفَ عُودَہُ: کو تربیت دینا، تعلیم دینا، تعلیم سے آراستہ کرنا۔ عجم عُوْدَہ: کا امتحان لینا، کی آزمائش کرنا، کسر عودہ: کا زور توڑنا، کی مزاحمت ختم کرنا، کی ہمت کچلنا، کا حوصلہ ختم کرنا۔ عَوْد: واپسی، رجوع، اعادہ، بار بار ہونا، دہرانا، بار بار دہرانا۔ فعله عَوْدًا و بَدْءًا یافعله عَوْدَہ علی بدئه یافعله عودا إلی بدءٍ: اس نے یہ سب کچھ دوبارہ کیا یا شروع کیا۔ عَوْدَة: واپسی۔ بعودة البرید: بواپسی ڈاک۔ إلی غیرِ عَوْدَةٍ: دوبارہ واپس نہ آنے کیلئے، ہمیشہ کیلئے، اچھی خلاصی، ہمیشہ کیلئے خدا حافظ، الوداع، عَادَة جمع عادات و عَوائِد: عادت، دستور، رواج، رسم، سلوک، پریکٹس عادةً: عام طور پر، عموماً، رواجاً، معمولاً بالعموم عادةٌ جمع عَوائِد: ٹیکس (جمع) محصولات، قیمت، اجرت، خرچ، خرچہ (Charges) فوق العادة: غیر معمولی، حیرت انگیز، شاذ، خاص، خصوصی، ہنگامی (جیسے ہنگامی اجلاس)۔ علی عادته: حسب عادت، حسب معمول۔ کَسَابِقِ العادةِ: جیسا کہ پہلے معمول تھا، حسب معمول۔ جَرَتِ العادةُ ب: کا معمول ہونا، کا رواج ہونا، کے مطابق ہونا، کا معمول کے مطابق ہونا، کا حسب عادت ہونا، کا رائج ہونا، مروجہ ہونا، رائج الوقت ہونا، عام ہونا، کا رواج ہونا، کا عام ہونا، عام مظہر ہونا، کا عام دستور ہونا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جرت بذلك عادتهم: وہ ان کی عادت تھی، وہ ایسا کرنے کے عادی تھے۔ العادة السرِّيَة: جلق، مشت زنی، ہتھرسی، عَوَائِدُ الجُمْرُك: کسٹم کے محصولات۔ عوائدُ مَبانٍ: مکانات کے ٹیکس (House taxes)۔ عوائدُ الاملاك: غیر منقولہ جائیدادوں پر نافذ ٹیکس۔ عادی: رواجی، حسب معمول، معمول کے مطابق عام، حسب عادت، عام، معیاری، نارمل، باقاعدہ، پابندی کیساتھ، سادہ، معمولی ،قدیم، پرانا، عتیق۔ عادِیات: باقیات آثار۔ آثار قدیمہ، اثریات۔ عیادة جمع عِیادات: کلینک، طبیب سے مشورہ کا کام۔ عیادة خارجیة: پولی کلینک، بیرونی مریضوں کا کلینک۔ المبدأ والمعاد: (کسی مسئلہ کا) مشکل حصہ (کا) انتہائی اہم عنصر۔ إعادةُ النباء: دوبارہ تعمیر۔ اعادة الحقوق: آبادکاری۔ اعادة التسلح: دوبارہ مسلح ہونا۔ اعادة الشؤون علی ما کانت علیہ: پہلی حالت کا بحال کرنا۔ اعادة التکوین: ازسرنو تخلیق۔ اعادة التنظیم: ازسرنو تنظیم۔ عائد: واپس آنے والا، لوٹنے والا، بار بار ہونے والا، ملنے والا (منافع وغیرہ) ـل / الی: سے متعلق، کے لئے مناسب، موزوں جمع عائدون: واپس آنے والے تارک وطن، دوبارہ تارک وطن جمع عُوّاد: مزاج پرسی کرنے والا۔ عائدات: آمدنیاں، مداخل۔ عائد الارباح: اصل یا خالص نفع، فائدہ۔ عائدة جمع عوائد: نفع، منافع، ـــ علی: کے لئے فوقیت، غلبہ، فائدہ۔ عائدیہ: کے متعلق ہونا، کا حصہ ہونا۔ رکنیت۔ مُعوَّد علی: کا عادی، خوگر، مُعِید جمع مُعِیدون: دہرانے والا۔ خانگی معلم، اتالیق، کھیلوں کا استاد (Coach) (یونیورسٹی میں) ورزشیں کرانے کیلئے متعین معاون۔ مُتعَوَّدٌ علی: (کا) عادی، خوگر۔ مُعتاد علی: کا عادی، خوگر۔ ـــ: حسب معمول، معمول کے مطابق، عام، نارمل کالمعتاد: حسب معمول۔ معتادُ الجرائم: عادی مجرم۔

عاذ: عَاذَ ـُ عَوذًا و عِیاذًا و مَعَاذًا و مَعَاذَةً بفلان من کذا: سے کی پناہ لینا یا پناہ میں آنا کہا جاتا ہے: اعوذ باللّٰہ من الشیطان الرجیم: میں شیطان ملعون سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ـــ بالشی: کے ساتھ لگنا۔ عَوَّذ تَوِیْذًا الرجُلَ: کو تعویذ پہنانا۔ ـــ وأعَاذَ إعاذَةً و اعوَذ اِعْوَاذًا الرجُلَ: کے لئے محفوظ رہنے کی دعا کرنا۔ اسے أُعِیذُكَ باللّٰہ کہنا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے: کہا جاتا ہے تَعَوَّذَ واستَعَاذَ باللّٰہ فاعاذہ و عَوَّذَہُ: اس نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ إعاذَةً و اَعْوَذَا الرجُلَ: پر جادو کرنا۔ تَعَوَّذَ و استعاذ بفلان من کذا: سے کی پناہ لینا، سے کی پناہ میں آنا۔ تَعَاوَذَ القومُ: ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ ایک دوسرے کی پناہ لینا۔ العَائِذ جمع عُوَّذ: اسم فاعل۔ ـــ جمع عُوذ و عُوذان و جج عُوذات: نئی جننے والی ہرنی، اونٹنی یا گھوڑی۔ العائِذة جمع عَوائِذ و عائذات: عائذ کا مونث۔ العوائذ (فلك): چار ستارے جن کے درمیان میں ایک ستارہ ربع نام کا ہے۔ العَوذ: پناہ لینا، کہا جاتا ہے: عوذٌ باللّٰہ منك یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں العَوَذ: جائے پناہ کراہت، گرا ہوا پتہ، ناکس و فرومایہ لوگ۔ العَوَاذ: کراہت، کہا جاتا ہے۔ ماترکت فلانًا الا عواذًا منہ: میں نے فلاں شخص کو صرف کراہت کی وجہ سے چھوڑا۔ العُوذة جمع عُوَذ و التعویذ جمع تَعَاوِیذ: تعویذ، پاگل پن اور نظر لگنے سے بچانے کیلئے لکھے ہوئے اسماء و آیات وغیرہ جو گلے وغیرہ میں باندھے جاتے ہیں۔ العِیاذ: پناہ گاہ۔ کہا جاتا ہے: العیاذ باللّٰہ منك: میں تم سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ المَعَاذ (مص): جائے پناہ، جادو، کہا جاتا ہے۔ مَعَاذَ اللّٰہِ و مَعَاذَوجہِ اللّٰہ: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ المَعَاذة جمع مَعَاذات: تعویذ کہا جاتا ہے: مَعَاذَةَ اللّٰہ و مَعَاذة وجہ اللّٰہ: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ المُعَوَّذ: پنکا ڈالنے کی جگہ۔ گھروں کے اطراف میں اونٹوں کی چراگاہ۔ ـــ والمُعَوِّذ والعُوَّذ: کانٹوں یا درختوں کی جڑوں میں یا پتھروں کے نیچے اگی ہوئی نباتات۔

عَاذَ ـُ عَوذًا و عِیاذا و معاذًا بـ من: سے یا کے خلاف کی حفاظت چاہنا، سے کی پناہ لینا۔ اَعُوذُ باللّٰہ: اللہ نہ کرے۔ اللہ مجھے اس سے بچائے۔ عَوَّذہ من: کو سے بچانا، کی سے حفاظت کرنا۔ ـــ ہ: پر جادو کرنا، کو جادو، منتر، تعویذ یا گنڈے کے ذریعے مستحکم کرنا۔ اَعْوَذ بمعنی عوّذ نیز اعوَذہٗ: کو اللہ کی حمایت میں دینا، اللہ سے دعا کرنا کہ وہ اسے حفاظت میں رکھے۔ تعَوّذ بمعنی عَاذَ۔ استعوذ بمعنی عَاذَ نیز اِستَعوَذَ بـ: اپنے آپ کو کے ذریعے محفوظ کرنا، اپنے آپ کو کے ذریعہ شکار ہونے سے بچانا۔ عَوذ: پناہ لینا، پناہ لینے کا عمل۔ عَوذ پناہ، جائے پناہ، پناہ گاہ، ملجا۔ ماوی، گوشۂ تنہائی، مامن۔ عُوذة جمع عُوَذ: تعویذ، گنڈا، جادو، سحر افسون، ٹونا، ٹوٹکا، منتر۔ عیاذ: پناہ لینا، پناہ لینے کا عمل یا پناہ لینے کا اظہار۔ عیاذ للّٰہ یا العیاذُ باللّٰہ: اللہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ (مجھے یا ہمیں) اس سے بچائے، محفوظ رکھے۔ معاذ اللّٰہ: یہی معنی۔

معاذ: پناہ لینا، پناہ لینا کا عمل یا اظہار، پناہ، جائے پناہ، پناہ گاہ ملجا، ماوی، مامن۔ تعویذ جمع تعاویذ بمعنی عُوذة

عور: ۱۔ عَارَ ـُ عَوْرًاہُ: کو کانا کر دینا۔ عَوِرَ ـَ عَوَرًا: کانا ہونا۔ ـــ العینُ: آنکھ کا کانا ہو جانا۔ صفت مذکر اَعْوَر: صفت مونث عَوراء، جمع عُور و عُوران۔ عَوَّرہُ: کو کانا کر دینا۔ ـــ علیہ امرَہُ: کو اس کے کام کی وجہ سے ملامت کرنا، کے کام کی قباحت ظاہر کرنا۔ ـــ عن فلان: کے بارے میں تکذیب کرنا اور جواب دینا۔ عَاوَرَ مُعَاوَرَةً الشمسَ: کو توجہ سے دیکھنا، پر نگاہ رکھنا۔ اَعْوَرَ اِعْوِرَارًا: کو کانا کرنا۔ اِعْوَرَّ: کانا ہو جانا۔ ـــ و اِعْوَارَّت العینُ: آنکھ کا کانی ہونا۔ استعْوَرَ الرجُلُ: تنہا ہونا۔ العائر (فا): جس کی آنکھ میں تنکا ہو، آنکھ کا دکھنا۔ تنکا، ہر وہ چیز جو آنکھ کو تکلیف دے۔ ـــ من السہام و الحجارة: تیر یا پتھر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ کہا جاتا ہے: اصابہ سہم او حجر عائرٌ: اسے تیر یا پتھر لگا جس کو پھینکنے والا معلوم نہیں۔ العائِرَة جمع عَوَائِر: عائر کا مونث۔ کثرت، کہا جاتا ہے: لَہُ من المال عائِرة عینین: اس کے ہاں اتنا مال ہے جو آنکھوں کو بھر دیتا ہے۔ عینٌ عائرة: تنکے والی آنکھ۔ العَوِر م عَوِرَة: بدسیرت (شخص)۔ الأعْوَر م عَوراءُ جمع عُورٌ و عُوران و عِیران: کانا، یک چشم۔ ـــ جمع اَعَاوِر (ح): کوا، جس کا کوئی سگا بھائی نہ ہو۔ ردی چیز۔ ضعیف، بزدل، کند ذہن، غلط راہ پر چلنے اور چلانے والا۔ بے فیض، برا گائیڈ، وہ راہ جس میں کوئی نشان نہ ہو۔ کلمةٌ عوراء: کلمۂ قبیحہ۔ العُوَّار جمع عَوَاویر: تنکا، راہ سے ناواقف، کمزور، بزدل۔ العُوَیر (ح): کوا۔ رجلٌ مُعْوِر: بدسیرت۔

۲۔ عَارَ ـُ عَوْرًا عینَ الماء او الرَکِیَّةَ: مٹی سے پانی کے چشمے یا کنویں کو بند کر دینا۔ ـــ تْ عینُ الماءُ او الرکیّةُ: پانی کے چشمے یا کنویں کا بند ہو جانا۔ ـــ الشیَ: کو لے جانا اور تلف کر دینا۔ عَوَّرَ عینَ البئر: کنویں کو مٹی سے بند کر دینا نتیجتًا اس کا خشک ہو جانا۔ أعَارَ عینَ الماء اوْ الرکیّةَ: پانی کے چشمے یا کنویں کو مٹی سے بند کر دینا۔ الاَعْوَر جمع أعَاوِر: پھٹی ہوئی کتاب۔ فلاةُ عوراء: بے آب جنگل، المعانی العُور: مشکل معانی۔

۳۔ عَوَّرَ المَکَاییلَ: پیمانوں کا اندازہ لگانا۔ عَاوَرَ و عَایَرَ المکاییلَ: پیمانوں کا اندازہ لگانا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۴۔ عَوَّرَہٗ عن الامر: کو سے باز رکھنا۔ فلاناً: کو لوٹا دینا اور اس کی ضرورت پوری نہ کرنا۔

۵۔ اَعْوَرَ اِعْوَارًا الشئُ: ظاہر ہونا، کے چھپے ہوئے حصے نظر آنا۔ الفارسُ: سوار میں نیزہ لگنے کی جگہ کا دکھائی دینا۔ ــ الرجُلُ: شک کرنا۔ العَوْرَۃ جمع عَوْرَات و عَوَرَات: سرحدوں وغیرہ میں پڑنے والا خلل، جس سے ڈر آئے، چھپانے کی جگہ، ہر وہ امر جس سے شرم آئے، شرم کی بات، اعضاء جن کو انسان شرم کی وجہ سے چھپاتا ہے۔ ــ من الجبال: پہاڑ کے شگاف۔ العَوَار و العِوار و العُوَار: عیب، کپڑے کی پھٹن، کہا جاتا ہے: سلعۃٌ ذات عَوَارٍ: سامان تجارت جس میں کوئی عیب ہو۔ العَوَارِیَّۃ (ت): سامان تجارت جسے سمندر کے پانی سے نقصان پہنچا ہو اور اس کی قیمت گر گئی ہو۔ شئٌ عَوَر: وہ چیز جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔ المَعْوِرُ من الامکنۃ: خوفناک جگہ، شئٌ مُعْوِرٌ: چیز جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔

۶۔ اَعَارَ اِعَارَۃً الشئَ و من الشئ: کو کوئی چیز عاریۃً دینا۔ عاور مُعَاوَرَۃً الشئَ: کے ساتھ وہی کرنا جو چیز کے مالک نے اس کے ساتھ کیا ہو۔ کو کوئی چیز عاریۃً دینا۔ تَعَوَّرَ القومُ الشئَ: کو ایک دوسرے سے لینا۔ ــ العاریۃ: کوئی چیز مانگنا۔ تعاوَر و اِعْتَوَرَ القومُ الشئَ: باری باری کسی چیز کو ایک دوسرے کو دینا، لینا، کہا جاتا ہے۔ تعاورت الریاحُ رسم الدار: مکان کے نشانات و آثار پر مختلف قسم کی ہواؤں کا چلنا، کبھی جنوبی، کبھی شمالی، کبھی غربی اور کبھی مشرقی۔

اِسْتَعَارَ الشئَ من فلانٍ و استعار فلاناً الشئَ: سے کوئی چیز عاریۃً مانگنا۔ اسی سے ہے: أری الدھرَ یستعیرنی ثیابی: میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانہ میرے کپڑے عاریۃً دینے کو کہتا ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ آدمی بوڑھا ہو جائے اور اسے موت کا خوف ہو۔ العَارَۃ و العَارِیَۃ و العَارِیَّۃ جمع عَوَارِی: مانگی ہوئی چیز۔ وہ چیز جس کا آپس میں لین دین کریں۔

۷۔ العَوْرَۃُ من الشمس جمع عورات و عَوَرَات: سورج کی جائے طلوع و غروب۔ العَوَائِر من الجراد: ٹڈیوں کی متفرق ڈاریں۔ العُوَّار جمع عَوَاوِیر (ح): ابابیل۔ العِیران: ٹڈی کی متفرق ڈاریں۔ المُعَار: دبلا کیا ہوا گھوڑا۔ بعض کے نزدیک نچی ہوئی دم والا گھوڑا۔

(ن) عَوِرَ ــ عَوَرًا: ایک آنکھ سے محروم ہونا، یک چشم ہونا یا ہو جانا۔ عَوَّرَہٗ: کو ایک آنکھ سے محروم کرنا، یک چشم کر دینا۔ ــ ہ: کو نقصان پہنچانا، خراب کرنا، بگاڑنا۔ ــ ہ (پیمانوں یا باٹوں کا) کو ناپنا، جانچنا، کا اندازہ کرنا (پیمانوں اور باٹوں کی) درستی و صحت کا تجربہ کرنا، کی آزمائش کرنا کو جانچنا۔ اَعْوَرَہ ہ: کو کوئی چیز عاریۃً دینا، مستعار دینا، ادھار دینا۔ تَعَاوَرَ ہ: میں باری باری ہونا یا ہونے دینا، کو باری باری کرنا، کو باری باری لینا۔ ــ ہ/ ھ: کو باری باری پکڑنا، گرفت میں لینا، پر پڑنا واقع ہونا، کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، پر قابو پانا۔ اِعْتَوَرَہ: پر باری باری، واقع ہونا، پڑنا، کو لگنا، پر اثر انداز ہونا۔ ــ ھ: (مختلف العناصر اثرات یا عوامل کا) کو بنانا، صورت دینا، ڈھالنا۔ ــ ہ: کی راہ میں حائل ہونا، کو روکنا۔ اِسْتَعْوَرَ ہ من: سے ادھار لینا، عاریۃً لینا۔ عَوْرَۃ: نقص، عیب، کمی، خامی، ادھورا پن، ناتمامی، کمزوری، خرابی جمع عورات: اعضائے تناسل، کمزوری، خامی۔ عَوَار و عِوَار: عیب، ناتمامی، خرابی، نقص، غلطی، خطا، قصور، رخنہ، داغ، دھبہ۔ عُوَّار: ابابیل۔ عِیرۃ: (نقلی) دانت، بال۔ اَعْوَر م عوراء جمع عُور: یک چشم۔ اِعارۃ: مستعار دینا، عاریۃً دینا۔ مکتبۃ اِعاریّہ: کتابیں مستعار دینے والی لائبریری، گشتی لائبریری۔ تعاوُر: تبادل، اتار چڑھاؤ، تبدیلی، تغیر فرق۔ اِستعارۃ: ادھار لینا، استعارہ (metaphor)۔ استعاری: استعارے والا (melaphrical)۔ صنائع بدائع سے پُر figurative۔

عاریۃ: ادھار لی ہوئی چیز، ادھار لینا، قرض، ادھار، قرضہ۔ مُعِیر: مستعار دینے والا۔ مُعَار: مستعار ادھار دی دیا ہوا۔ مُستَعِیر: ادھار لینے والا۔ عاریۃً لینے والا۔ مُستَعار: ادھار لیا ہوا۔ استعارۃً استعمال کیا ہوا نقلی (جیسے بال)، اسم مُستعار: قلمی نام تخلص Psendonym وجوہ مُستعارۃ: مصنوعی چہرے (masked faces)، منافقین (hypocrites)۔

عاز: ۱۔ عَازَ ــ عَوْزًا الشئُ فلانًا: کیلئے باوجود ضرورت کے چیز کا کمیاب ہونا۔ عَوِزَ ــ عَوَزًا الشئُ: کمیاب ہونا۔ ــ الامرُ: سخت ہونا۔ ــ الرجلُ: محتاج ہونا صفت عَوِزٌ و عائز و أَعْوَز ــ اَعْوَزَ اِعْوَازًا الرجُلُ: محتاج ہونا، بدحال ہونا۔ صفت مُعْوِز و مُعْوَز ــ الشئُ: دشوار ہونا۔ الدھرُ فلاناً: زمانہ کا کسی کو محتاج کر دینا۔ ــ ہُ المطلوبُ: کو مقصود کا عاجز کر دینا اور اس پر یا اس کے لئے اس کا حصول مشکل ہو جانا۔ اعوز بی الشئُ: کا محتاج ہونا اور اس کو نہ پا سکنا۔ اِعْوَزَّ اِعْوِزَازًا: ناقص ہونا یا ہو جانا، غیر متوازن ہونا۔ العَوَز: ضرورت، تنگی۔ المُعْوِز والمِعْوَزَۃ جمع مَعَاوِز و مَعَاوِزَۃ: پرانا بوسیدہ کپڑا۔

۲۔ اِعْوَزَّ اعوِزازًا: حیلہ کرنا۔

۳۔ العَوْز (واحد عَوْزَۃ): انگور کا دانہ۔ المِعْوَز والمِعْوَزَۃ جمع مَعَاوِزَۃ: ہر وہ کپڑا جس سے دوسرے کی حفاظت کی جائے۔

(ن) عوز ــ عَوْزًا: غریب، ضرورت مند یا قلاش ہونا یا ہو جانا۔ عاز ــ عَوْزًا ھ: کی ضرورت ہونا، کا ضرورت مند ہونا۔ اَعْوَزَ: مفلس، ضرورت مند یا قلاش ہونا یا ہو جانا۔ اَعْوَزَہُ الشئُ: کو نہ رکھنا، سے محروم ہونا، کو کی کمی ہونا، کو کی قلت ہونا (اس کے پاس یہ چیز نہیں تھی، اسے اس کی ضرورت تھی، وہ اس کا حاجتمند تھا)۔

عَوَز: کمی، قلت، حاجت، ضرورت، احتیاج، افلاس، بے نوائی، افلاس، مفلسی محتاجی۔ عَوِز: غریب، ضرورت مند محتاج مفلس، قلاش۔ عَازۃ: کمی، قلت، احتیاج، ضرورت، غربت، افلاس، مفلسی۔ اَعْوَز: غریب، ضرورت مند، محتاج، مفلس، قلاش۔ حاجت مند۔ اعاویز (جمع) اِعواز: بمعنی عَوَز۔ عائز: بمعنی اَعْوَز۔ مُعْوِز جمع مُعْوِزُون: جس کی روزی کا کوئی بندوبست نہ ہو، کنگال محتاج مفلس۔

عاس: ۱۔ عَاسَ ــ عَوْسًا و عَوَسَانًا: رات کے وقت چکر لگانا۔ ــ عَوْسًا و عِیاسۃً الذئبُ: بھیڑیے کا رات کو خوراک تلاش کرنا۔

۲۔ عَاسَ ــ عَوْسًا و عَوَسَانًا علی عیالہ: اولاد کے لئے محنت سے کمانا۔ ــ عَیَالَہٗ: کو خوراک دینا۔ ــ عَوْسًا معیشتہٗ: اپنی معیشت کو درست کرنا۔

العَوَّاس: مبالغہ کا صیغہ۔

۳۔ عَاسَ ــ عَوْسًا الشئَ: کی تعریف کرنا۔

۴۔ عَوِسَ ــ عَوَسًا: ہنستے وقت رخسارے میں گڑھا پڑنا۔ صفت اَعْوَس۔

۵۔ العُوس (ح): سفید مینڈھے۔ نسبت کیلئے عُوسِیّ کہا جاتا ہے کبش عُوسِیّ۔ العُوَیْسَۃ او العُوَیْسِیَّۃ: جیب کا چاقو (عام زبان میں)۔

عاص: ۱۔ عَاصَ ــ وعَوِص ــ عِیَاصًا و عَوَصًا الشئُ: سخت ہونا، مشکل ہونا۔ ــ الکلامُ: کلام کا سمجھنے میں دشوار ہونا۔ عَوَّصَ قول و عمل میں راہ راست پر نہ ہونا۔ ــ الشاعِرُ او الخطیبُ: شاعر کا ایسا شعر کہنا جس کا سمجھنا دشوار ہو، مقرر کا ایسی بات کہنا جس کا سمجھنا مشکل ہو۔ اَعْوَصَ عَوْصًا و عِیَاصًا بخصمہ و علی خصمہ: مد مقابل کو ایسے دلائل دینا جن سے نکلنا اس کے لئے مشکل ہو، یہاں قیاس کے مطابق اعواصًا ہونا چاہیے۔ ــ فی الکلام: مبہم گفتگو

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا۔ اِغْتَاصَ اِغْتِیَاصًا الامرُ علیه: کے لئے سخت ہونا، دشوار ہونا، پیچیدہ ہونا جس کی بنا پر صحیح بات تک نہ پہنچ سکنا۔ العائِص و العَوَص و العَیْصاء: درشتی، تختی ضرورت۔ العَوَص: ناممکن، مشکل۔ الاَعْوَص م عَوْصَاء: مبہم، عسیر الفہم۔ العَوْصاء: اعوص کا مونث: درشتی، ضرورت کلمة عَوْصاء: نادر یا عسیر الفہم بات۔ العَوِیْص: درشتی، تختی، شدت۔ ـــــ م عَوِیْصَه من الامور: مشکل کام، دشوار کام، بات اور معاملہ۔ ـــــ من الکلام: عسیر الفہم، کلام جس کا سمجھنا مشکل ہو۔ ـــ من الدواهی: سخت مصائب۔

۲۔ عَاوَصَ مُعَاوَصَةً: سے کشتی لڑنا۔ العَوْص: قوت، حرکت۔ العَوِیص: قوت، حرکت۔

۳۔ العَوْص و العَوِیص: نفس۔

ن عَوِصَ ـــ عَوَصًا و عِیَاصًا: مشکل ہونا، مغلق ہونا، عسیر الفہم ہونا۔ اِعْتَاصَ: بمعنی عَوِصَ۔ عَوِیص مشکل، عسیر الفہم، مغلق، غیر واضح اِعْتِیَاص: مشکل ہونا، اشکال، دشواری، رکاوٹ، روک۔

عاض: عَاضَ ـُ عَوْضًا و عِوَضًا و عِیَاضًا و عَوَّضَ و عَاوَضَ و اَعَاضَ اِعَاضَةً فلانًا من کذا: کو کا بدلہ دینا۔ تَعَوَّضَ منه: سے بدلہ میں کوئی چیز لینا۔ اِعْتَاضَ فلانًا: سے بدلہ میں کوئی چیز مانگنا۔ ـ منه: سے بدلہ میں کوئی چیز لینا۔ اِسْتَعَاضَ فلانًا: سے بدلہ میں کوئی چیز مانگنا۔ عَوْضُ (یہ کلمہ مبنی ہے۔ تینوں حرکتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اسم ظرف ہے۔ مستقبل کی استغراق کا کام دیتا ہے جیسے لا اُفَارِقُكَ عَوْضُ: میں تجھ سے کبھی جدا نہ ہوں گا۔ استغراق ماضی کے لئے بھی آتا ہے جیسے: مارأیتُ مثله عوضُ: میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نفی کے ساتھ خاص ہے۔ بحالت اضافت مُعْرَب ہوتا ہے۔ جیسے لا اَفْعَلُه عَوْضَ العائضین: میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، بالکل اسی طرح آپ کہتے ہیں: ابدا الابدین، چنانچہ عوض یہاں ظرفیت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ العِوَض جمع اَعْوَاض و العَائِض و المَعُوضة: بدلا، معاوضہ، عوض۔

ن عَاضَ ـُ عَوْضًا و عِوَضًا و عِیَاضًا ہ من / عن: کو کے بدلے میں کچھ دینا، کو کے لئے بطور قیمت کچھ ادا کرنا، کو کی جگہ کچھ دینا، یا رکھنا یا لگانا، کو کا قائم مقام بنانا، کو کی جگہ رکھنا۔ ـــ ہ من / عن: کو کا معاوضہ دینا، کو کا تاوان دینا، کو کا ہرجانہ ادا کرنا، کو کا بدلہ دینا۔ ـــــ ہ ھ: کو کی جگہ دینا۔ ـــ ھ ب: کو کے تبادلہ میں رکھنا۔ ـــ علی ھ: کو (اس کے نقصان) کی تلافی کے طور پر دینا۔ اس جیسی چیز تلافی کیلئے دینا۔ لا یُعَوَّضُ: جس کی جگہ پُر نہ کی جا سکے، ناقابل تلافی۔ عَاوَضَ بمعنی عاضَ۔ اَعْوَضَ بمعنی عَاضَ۔ تَعَوَّضَ ھ: کچھ بدل میں لینا، وصول کرنا۔ ـــ ھ من: کو کے بدل کے طور پر استعمال کرنا۔ ـــ ب من: کے لئے کی شکل میں معاوضہ طلب کرنا، کیلئے کچھ بطور معاوضہ لینا۔ ـــ من: کے خلاف پاسنگ حاصل کرنا۔ اِعْتَاضَ ھ عن / من: کو کے بدل یا معاوضہ میں لینا۔ وصول کرنا۔ اِسْتَعَاضَ ب عن: کو کے بدل کے طور پر لینا۔ ـــ عن ب: کو سے بدلنا کو سے اولا دبدلی کرنا۔ ـــ عن ب کو کے بدلہ میں دینا، کو کی جگہ رکھنا، کو کا قائم مقام بنانا۔ ـــ عن ب: کے ساتھ کو بدلنا۔ ـــ من: سے کا معاوضہ لینا۔ کے خلاف پاسنگ حاصل کرنا۔ عـــ ب: کا کے ذریعے معاوضہ ہونا، کی سے تلافی ہونا، کا کے ذریعے تاوان یا ہرجانہ ہونا۔ عِوَض: بدل، قائم مقام، تلافی، معاوضہ۔ عِوَض: بدلا۔ ہرجانہ، تاوان۔ عِوضًا عن / من: کے بدل کے طور پر کے قائم مقام کے طور پر، کی جگہ، کے تبادلہ میں، کے معاوضہ میں، کے بجائے۔ تعویض: معاوضہ، تلافی، ہرجانہ، تاوان، ضمانت، حفاظت، خرچ کی ہوئی رقم کی ادائیگی واپس دینا، واپس کرنا، تصفیہ (ان کے ساتھ صلہ عن آتا ہے) جمع تعویضات: بدلہ تلافی، معاوضہ، عوض، پاسنگ، ہرجانہ، ہرجہ، تاوان، بدلہ۔ تعویضی: تعویض سے منسوب۔ مُعَاوضة جمع مُعَاوضات: یکمشت رقم کی ادائیگی کا ٹھیکہ۔ استعاضة عـــ ب: کو کی جگہ رکھنا۔ کو کا قائم مقام بنانا، کی سے اولا دبدلی۔

عاف: ا۔ عَافَ یَعُوفُ عَوْفًا الطائرُ: پرندے کا کسی چیز پر یا پانی یا مردار پر منڈلانا۔ تَعَوَّفَ الاسدُ: شیر کا رات میں شکار ڈھونڈنا اور اسے پھاڑنا۔ العَوْف (ح): شیر (ح): بھیڑیا، آل اولاد کے لئے محنت مشقت کرنے والا۔ العُوَاف و العُوَافة: وہ شکار جس کو شیر رات کے وقت پھاڑ کھائے، غنیمت۔

۲۔ العاف: آسان، نرم۔ العوف: حال، حالت (ح): مرغ۔ ـــ (ح): پرندہ، سخت کوشش، قسمت، یا حصہ، مہمان۔ ابو عوف (ح): زنڈی۔ اُمّ عوف: مادہ ٹڈی۔

عوق: ا۔ عَاقَ ـُ عَوْقًا و عَوَّقَ اَعَاقَ اِعَاقَةً و اعتاقَ اعتیاقًا ہ عن کذا: کو سے روکنا، باز رکھنا، ہٹانا، کہا جاتا ہے: اَعْوَقَ بی الزادُ او الدابَّةُ اِعواقًا: مجھے توشہ یا سواری نے سفر سے باز رکھا۔ تَعَوَّقَ: پیچھے ہٹنا۔ ـــ فلانًا: کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا۔ روک دینا۔ العَائِق (فا) جمع عَوَائِق و عُوَّق: ہر روکنے والی چیز۔ ہر مشغول رکھنے والی چیز۔ عَوَائِقُ الدهر: زمانہ کے مشاغل۔ العَائِقة جمع عَوَائِق: عائق کا مونث، کام سے روکنے والی چیز۔ العَوْق و العُوق جمع اَعْوَاق: ہر روکنے یا مشغول رکھنے والی چیز، لوگوں کے اچھے کاموں سے روکنے والا۔ وادی کا موڑ۔ العُوَق و العَوِق و العِوَق: روکنے والا۔ بزدل۔ رَجُلٌ عُوَقَةٌ و عَیِّقٌ: لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے والا۔ العُوَقَة و العُوَق و العَیِّق: روکنے والا، بزدل۔ اصل عُوَقَة و عُوَّق و عَیِّق: لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے والا۔ العَیُّوق (فلك) ایک سرخ رنگ کا ستارہ، کہکشاں کے دائیں طرف، جو ثریا کے پیچھے رہتا ہے اور اس سے آگے نہیں ہوتا۔

۲۔ العَوْق و العُوق جمع اَعْوَاق: بے فیض شخص۔ العَوَق: بھوک۔ العَائِق (ن): پھولوں کی ایک قسم۔ العُوَاق و العَوِیق: چلتے وقت جانور کے پیٹ سے نکلنے والی آواز۔

ن عَاقَ ـُ عَوْقًا ہ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا، منع کرنا۔ ـــ ہ ھ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، میں روڑا اٹکانا، میں رکاوٹ ڈالنا، کو ملتوی کرنا، موقوف کرنا، ٹالنا، میں تاخیر کرنا، کو دیر لگانا، (کام) لٹکائے رکھنا، میں سستی کرنا تاخیر کرنا۔ (کی رفتار کو) کم کرنا۔ عَوَّقَ و اَعْوَقَ بمعنی عَاقَ، تَعَوَّقَ عن: سے رکنا، باز رہنا۔ تَعَوَّقَ: رکنا، راہ میں حائل ہونا، کم ہونا، ملتوی ہونا، موقوف ہونا، موخر ہونا۔ اِعْتَاقَ بمعنی عَاقَ۔ عَوْق: روکنا، راہ میں حائل ہونا، باز رکھنا۔ بٹھائے رکھنا، قابو میں رکھنا، تاخیر کرنا، کم کرنا، ملتوی کرنا، موقوف رکھنا، ٹالنا۔ اِعاقة بمعنی عَوْق۔ عائِق: رکاوٹ۔ جمع عِیاق: بانکا، چھیلا، چھیل چھبیلا۔ عَائِقَة جمع عَوَائِق: رکاوٹ۔ مانع (جمع موانع) آنکہ۔

عوک: ا۔ عاكَ ـُ عَوْكًا و مَعَاكًا علیه: پر حملہ کرنا، پر مہربانی کرنا، تَعَاوَكَ القومُ: باہم لڑنا۔ اِعْتَوَكَ القومُ: ہجوم کرنا۔ العَوْك (مص): کہا جاتا ہے: ما به عَوْكٌ: اس میں کوئی حرکت نہیں۔ العَوِیكة و المَعُوكَة: لڑائی، قتال۔

۲۔ عَاكَ ـُ عَوْكًا و مَعَاكًا علیه: کی طرف متوجہ ہونا۔ ـــ به: کے پاس پناہ لینا۔ المَعَاك: پناہ گاہ۔

۳۔ عَاكَ ـَ عَوْكًا و مَعَاكًا مَعَاكَةً: کمائی کرنا صفت عَائِك

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۴۔ المَعَاك: برداشت، راستہ۔

عول: ا۔ عَالَ ـــُـ عَوْلاً في حكمه: حکم میں ظلم کرنا، سیدھی راہ سے ہٹنا۔ ـــ عَوْلاً و عَالَ يَعِيلُ عَيْلاً في الميزان: تولنے میں خیانت کرنا۔ الميزانُ: گھٹنا۔ ـــ ت الناقةُ ذَنَبَها: اونٹنی کا اپنی دم اٹھانا۔ ـــ ت الفريضةُ: مقررہ حصہ کا چڑھنا، کے تیروں کا زیادہ ہونا اور نتیجہ میں حصے کم ہوجانا۔ امرُ القوم: مضطرب ہونا، سنگین ہوجانا۔ ـــ الشيئُ فلاناً: کا کسی پر بھاری ہونا کہا جاتا ہے: عَالَ عَوْلُهُ و عِيلَ عَوْلُهُ: اس کی ماں نے اسے گم کردیا۔ عَالَ و عِيلَ صَبْرُهُ: بے صبرا ہونا۔

۲۔ عَالَ ـــُـ عَوْلاً و عِيالةً الرجلُ: کثیر اولاد والا ہونا۔ ـــ عَوْلاً و عِيالةً و عُؤُولاً الرجلُ عِيالَهُ: آل اولاد کے معاش کی کفایت کرنا۔ ـــ اليتيمَ: یتیم کی کفالت کرنا۔ عَالَ و عِيلَ الرجلُ: محتاج ہونا۔ صفت مَعُول۔ عَيَّلَ تَعْيِيلاً عِيَالَهُ: اہل وعیال کی معاش کے لئے کافی ہونا۔ اَعَالَ إعالةً الرجلُ: محتاج ہونا۔ ـ عِيالَهُ: کی معاش کے لئے کافی ہونا۔ ـ و أَعْوَلَ إعْوالاً و اَعْيَلَ إعْيالاً الرجلُ: بہت اولاد والا ہونا۔ العائِلُ: اسم فاعل۔ العائِلة: عائِل کا مونث۔ عائلة الرجل: بیوی، اولاد، زیر کفالت لوگ اور باپ کی طرف سے اقارب، کہا جاتا ہے: ماله عالٌ و لا مالٌ: اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ (نہ کنبہ نہ مال ودولت)۔ العَوْلُ: ہر ایک تکلیف دہ کام، آل اور اولاد کی خوراک عَيِّلُ الرجل جمع عِيال و عَيَايل و عالة: گھر والے جن کا خرچ گھر کے سربراہ کے ذمہ ہو۔ (مذکر ومونث دونوں پر اطلاق ہوتا ہے)۔

۳۔ عَوَّلَ: چلا کر رونا۔ ـــ علي فلان وبه: سے مدد لینا، پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ کہا جاتا ہے: عَوِّلْ عَلَيَّ بما شئتَ: جو چاہو مجھ سے مدد لو۔ عَوَّلَ عليه مُعَوَّلاً (تعويلاً نہیں کہا جاتا) اسم عَوِل ہے۔ کہا جاتا ہے: عَوَّلْنا اِلي فلان في حاجتنا فوجدناه نعمَ المُعَوَّلُ: ہم نے فلاں شخص سے اپنی ضرورت میں پناہ مانگی تو وہ بہترین پناہ گاہ ثابت ہوا۔ اَعْوَلَ: چلا کر رونا۔ ـــ ت القوسُ: کمان کا آواز دینا بجنا۔ ـــ علي فلان: پر بھروسہ کرنا، ناز کرنا۔ اِعْتَوَلَ اِعْتِوالاً: چلا کر رونا۔ العَالةُ: بارش سے بچنے کے واسطے جھونپڑی۔ چھتری۔ العَوْلُ: جس سے مدد طلب کی گئی ہو۔ ـــ والعَوْلة والعَوِيل: چیخ چیخ کر گریہ زاری کرنا۔ العِوَلُ: بھروسہ، اعتماد اور استمداد، مددگار کہا جاتا ہے۔ فلانٌ عِوَلي من الناس: فلاں شخص لوگوں میں سے میرا مددگار ہے۔ المِعْوَلُ جمع مَعَاوِلُ: کدال، پھاوڑا۔ المُعَوَّلُ: جس سے فریاد کی جائے جس پر بھروسہ کیا جائے۔

۴۔ اَعَالَ و اَعْيَلَ: حریص ہونا صفت مُعْوِل و مُعِيل۔ اَعْوَلَ الرجلُ: حریص ہونا۔

۵۔ العَالَةُ (ح): شتر مرغ۔

○ عَالَ ـــُـ عَوْلاً: راہ حق سے ہٹنا۔ ـــ ہ: پر ظلم کرنا، کو تکلیف یا مصیبت پہنچانا؟ پر بھاری ہونا۔ عَالَ صبرُهُ وعِيلَ صبرُهُ: بے صبرا ہوجانا۔ ـــُـ عَوْلا و عِيالةً ہ: کی مدد کرنا، کا بوجھ اٹھانا کو سنبھالے رکھنا، کو سہارا دینا، کو زندہ رکھنا۔ کو (خصوصاً کنبہ کے افراد کو) کھلانا، گھر کا بار سر پر اٹھانا، کی غذا کو مہیا کرنا پڑنا، کی مدد کے لئے ذمہ دار ہونا، کو غذا فراہم کرنا، کے گھر کا خرچ چلانا، عَالَ: بہت سے افراد کے کنبہ والا ہونا۔ عَوَّلَ: ماتم کرنا، گریہ زاری کرنا، چیخنا، چلانا (کتے کا) بھونکنا۔ ـــ علي: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، پر فیصلہ دینا، کا پختہ فیصلہ کرلینا، کا/ کے کرنے کا ارادہ ہونا، کا ارادہ کرنا۔ لا به يُعْمَلُ ولا عليهِ يُعَوَّلُ: کالعدم۔ اَعْوَلَ: ماتم کرنا، گریہ زاری کرنا، چیخنا، (کتے یا بھیڑیے کا) چیخنا، کراہنا، واویلا کرنا۔ أَعَالَ ہ: کی مدد کرنا، کا بوجھ اٹھانا، کو سہارا دینا، کو سنبھالے رکھنا، کو زندہ رکھنا، کو کھلانا پڑنا (خصوصاً کنبہ کے افراد کو)، کے گھر کا خرچ چلانا، کی مدد کا ذمہ دار ہونا، کو غذا فراہم کرنا، کے گھر کا خرچ چلانا۔ ـــ: بہت سے افراد کے کنبہ والا ہونا۔ عَوْل: ماتم، گریہ زاری، چیخنا چلانا، (کتے یا بھیڑیے کا) چیخنا، کراہنا، واویلا کرنا، سہارا، امداد، گھر کا خرچ اٹھانا، گھر کا بوجھ اٹھانا، مدد کرنے والا۔ عِوَل: بھروسہ، اعتماد، اعتبار۔ عَيِّل: (کسی کی مدد پر انحصار کرنے والا) کنبہ، گھر بار، اہل خانہ اور شاگرد پیشہ، چھوٹا بچہ، بچہ جمع عِيَال و عَالة: دست نگر، متوسلین، عِيالٌ علي اور عَالةٌ علي: کے خرچ پر رہنے والا، والی، مکمل طور پر (کسی پر) انحصار کرنے والا (پر) بوجھ۔ عَالَة: بارش سے چھت کی سی پناہ گاہ۔ ـــ ـــ ماتم، گریہ زاری، چیخنا، چلانا واویلا کرنا، (کتے یا بھیڑیے کا) چیخنا چلانا۔ طفیلی، مفت خورہ۔ طفیلی پودا یا کیڑا۔ مِعْوَل جمع مَعَاوِل: کدال، کھرپا، جو چیز اندر ہی اندر جڑیں کاٹنے اور تباہی و بربادی کا کام دے۔ منفی عنصر۔ معاول هدامة تخریب کار عناصر۔ معاول الافساد و التقويض: تباہ کار اور تخریب کار عناصر۔ إعالة: غذا و سہارا، امداد، گھر کا خرچ چلانا۔ عائل: زندہ رکھنے والا، بوجھ اٹھانے والا، سہارا دینے والا، خصوصاً اہل کنبہ کو سنبھالے رکھنے والا، گھر کا خرچ چلانے والا، سارے خاندان کے لئے کمانے والا جس کے سر پر گھر بھر کا بار ہو۔ عائلة جمع عائلات و عوائل: بیوی، بچے، بال بچے، کنبہ، خاندان، گھر بار، اہل خانہ اور شاگرد پیشہ۔ عائلي: گھریلو، خاندانی۔ مُعَوِّلٌ علي: کا تہیہ کئے ہوئے، کا فیصلہ یا ارادہ کئے ہوئے۔ مُعَوَّل: بھروسہ کی چیز، بھروسہ، اعتماد، انحصار، دارومدار، آسرا، بھروسا، سہارا۔ ليس عليه مُعَوَّل: وہ قابل اعتماد نہیں، کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرسکتا۔ مُعِيل: بمعنی عائل۔

عوم: ا۔ عَامَ ـــُـ عَوْمًا في الماء: پانی میں تیرنا۔ صفت عَائِم۔ ـــ ت السفينةُ في الماءِ: کشتی یا جہاز کا پانی میں چلنا۔ ـــ النجومُ: ستاروں کا چلنا۔ عَوَّمَ السفينةَ: کشتی کو پانی میں چلانا، آج کل کہا جاتا ہے: عَوَّمَ السفينةَ الغريقةَ: اس نے ڈوبی ہوئی کشتی کو پانی کی سطح پر لا کر چلایا۔ العامُ: عامة کی جمع۔ العَامَةُ جمع عَام: ترو نا لٹھوں کا ٹھاٹھ، جسے پانی میں کشتی کا طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صحراء میں سوار کا دھڑ جو چلتا نظر آتا ہے۔ العُومة جمع عُوَم (ح): پانی میں تیرنے والا کیڑا۔ العُوَّامُ: سوار کا سر جو صحراء میں چلتا دکھائی دے۔ العَوَّامُ: عائم کا اسم مبالغہ، تیز چلنے والا گھوڑا۔ المُسْتَعَامُ: جہاز، کشتی۔

۲۔ عَامَ ـــُـ عَوْمًا الزِّمامُ: لگام ہلنا۔

۳۔ عَوَّمَ: کٹی ہوئی کھیتی کو دستہ دستہ رکھنا۔ العَامَةُ جمع عام: کٹی ہوئی کھیتی کے جمع شدہ گٹھے۔

۴۔ عَوَّمَ الكرمُ: انگور کی بیل کا ایک سال چھوڑ کر پھل لانا۔ ـــ ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا ایک سال پھل لانا اور ایک سال پھل نہ لانا۔ عَاوَمَ ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا ایک سال پھل لانا اور ایک سال پھل نہ لانا۔ ـــ فلانٌ فلاناً: کا سے ایک سال کے لئے کرایہ پر معاملہ کرنا۔ أَعْوَمَ إعْوامًا: ایک سال کا ہونا کا سال کے شروع میں ہونا۔ ـــ العامُ جمع أَعْوام: سال کی متواتر چار فصلیں۔ سال، اس کی تصغیر عُوَيم اور نسبت عامِيٌّ ہے۔ کہا جاتا ہے: لقيتهُ ذات عُوَيم: میں اسے ایک سال ملا۔ اس کو گزشتہ زمانہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۵۔ العام: دن۔ العَامَةُ جمع عَام: عمامہ کا پیچ۔ العُومَة جمع عُوَم (ح): ایک قسم کا سانپ۔

○ عَامَ ـــُـ عَوْمًا: تیرنا، عَوَّمَ ہ: (جہاز یا کشتی وغیرہ کو) تیرانا، سمندر میں رکھنا، اتارنا، ـــ ہ: کو غرقاب کرنا۔ عَوم: تیرنا۔ عَام جمع أَعْوَام: سال۔ عامئذٍ: اُس سال۔ عَوَّام: اچھا تیراک، حوض عوّام: تیرتی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہوئی یا متحرک گودی (Floating dock)۔ عَوَّامَة جمع عوّامات: پیراک پیپا، تیرونا Buoy یا life buoy۔ ہوا بھری ٹیوب جو ڈوبنے نہیں دیتی، لٹھوں کا ٹھاٹھ، حوض عَوَّام: تیرتی ہوئی یا متحرک گودی۔ عَائِم: تیرنے والا۔ جسر عائم: تیرتا ہوا یا متحرک پل۔ کشتیوں کا پل۔ پن روکی پل (Pontoon bridge)۔ رافعہ عَائِمہ: متحرک کرین Floating crane۔

عون: ا۔ عَانَ ـُ عَوُنًات المرأةُ: عورت کا ادھیڑ عمر ہونا۔ عَوَّنَ تَعُوِينًات المرأةُ: عورت کا ادھیڑ عمر والی ہونا۔ العَوَان جمع عُوُن: ادھیڑ عمر۔ بار بار ہونے والی جنگ۔ الحربُ العَوَان: شدید ترین لڑائی۔ ضرب المثل ہے: العَوَان لا تُعَلَّم الخِمرَة: وہ عورت جس نے یکے بعد دیگرے کئی شادیاں کی ہوں، اس بات کی محتاج نہیں ہوتی کہ کوئی اسے دوپٹا اوڑھنا سکھائے۔ یہ مثال تجربہ کار اور گرم سرد دیکھے ہوئے پر بولی جاتی ہے۔ المُتعَاوِنَة: بوڑھی، سن رسیدہ عورت

۲۔ عَوَّنَ تَعُوِيُنًا وعَاوَنَ مُعَاوَنَةً وعِوَانًا ہٗ علی الشیئ: کی کسی چیز میں مدد کرنا۔ اَعَانَ اِعَانَةً ہٗ علی الشیئ: کی کسی چیز میں مدد کرنا۔ دعاء میں کہتے ہیں: رَبِّ اَعِنِّی ولا تُعِنُ علیّ: اے میرے پروردگار میری مدد فرما، اور میرے خلاف مدد نہ کرنا۔ ـ ہٗ منه: کو سے چھٹکارا دلانا، کو سے رہائی دینا۔ تَعَاوَنَ واعُتَوَنَ القومُ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اِسُتَعَانَ فلانًا و بفلان: سے مدد مانگنا۔ العَون (واحد جمع مذکر ومونث کیلئے) جمع اَعُوَان: مدد، مددگار۔ خادم۔ التَعَاوُنِیّة: دکان امداد باہمی Cooprerative یا Co-op۔ المَعَانَة والمَعُونة والمَعُون: مدد۔ المِعُوَان جمع مَعَاوِین: بہتر مددگار، بہت مددگار۔

۳۔ العَانَة جمع عُوُن و عانات (ح): گدھی، گورخر کا ریوڑ، پیڑو۔ العَوَان جمع عُوُن: بارش شدہ زمین۔ العَوَانَة: کھجور کا لمبا درخت، ایک کیڑا جو ریت میں ہوتا ہے۔ (ح): سہ سے مشابہ ایک جانور۔

○ عاوَنَ ہ فی: کی میں یا سے مدد کرنا۔ ـ ہ علی: کی کو حاصل کرنے کیلئے مدد کرنا۔ ـ ہ فی: کی میں حمایت کرنا، کو میں امداد دینا، کی میں اعانت کرنا، کی میں امداد کرنا، اَعَان بمعنی عَاوَن نیز اَعَانَ ہ من: کو سے آزاد کرنا، کی سے گلو خلاصی کرانا، کو سے چھٹکارا دلانا۔ تَعَاوَن: ایک دوسرے کی مدد کرنا، امداد کرنا، حمایت کرنا، تعاون کرنا، مل کر کام کرنا، مشترکہ طور پر کام کرنا۔ اِسُتَعَان ہ/ب علی: سے کے خلاف مدد کرنے کی درخواست کرنا۔ تقاضا کرنا۔ سے کے خلاف مدد کیلئے رجوع کرنا۔ ـ ہ ھ/ ب علی: سے کیخلاف مدد طلب کرنا۔ ـ ہ و ھ/ ب: سے رجوع کرنا۔ ـ ہ/ ب علی: میں کیلئے کا استعمال کرنا۔ عون: مدد، امداد، آڑے وقت پر یا میں اعانت حمایت، تائید، پشت پناہی۔ جمع اَعُوَان: مددگار، خادم، محافظ دستہ، چھوٹا اہلکار، عدالت کا چپڑاسی۔ (Court usher)۔ اعوان المطافی: فائرمین (فائر بریگیڈ کے) عَوُنَة: جبری مزدوری بیگار (Corvee)۔ عَانَة: موئے زیرِ ناف۔ عَوَان: ادھیڑ عمر کا۔ ـ بین: کے مابین ثالث یا درمیان کا۔ حرب عَوَان: وقفہ وقفہ کے بعد ہونے اور نہ ختم ہونے والی جنگ۔ مِعُوَان جمع مَعَاوِین: اکثر مدد کرنے والا، قابل اعتماد سہارا، مددگار، مدد کا ذریعہ، جس کے پاس بار بار جایا جائے یا جس سے رجوع کیا جائے، مدد، امداد۔ مَعُونَة: مدد، امداد، آڑے وقت پر یا میں اعانت، حمایت، تائید، پشت پناہی۔ مَدَّیَدَ المَعُونَة ل: کو مدد پہنچانا، کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانا۔ مُعَاوَنَة اعانة: مدد، امداد، اعانت، حمایت پشت پناہی جمع اعانات: (قیمتیں کم کرنے کیلئے امداد۔ چندہ، مہینہ، وظیفہ، (مالی) امداد۔ تَعَاوُن: تعاون۔ شِرُكَةُ التعَاون: کوآپریٹو سوسائٹی، انجمن امداد باہمی، کوآپریٹو۔ جمعية تعاونیه: کوآپریٹو سوسائٹی، کوآپریٹو۔ هیئة تعاونیه: کوآپریٹو کارپوریشن، کوآپریٹو۔ تَعَاوُنِیّة: باہمی سپرٹ، بھائی چارہ کی سپرٹ، تعاون۔ مُعَاوِن: مددگار، مفید، حامی، پختہ سہارا، مدد کرنے والا، نائب، معاون Adjutant، ایڈی کانگ (Aid-de- camp)، پولیس آفیسر (نواحی علاقہ کا)۔ مُعَاوِنیة: پولیس سٹیشن، تھانہ۔ مُعِین جمع مُعِینُون: مددگار، مؤید، حامی، پختہ سہارا، معاون، اسسٹنٹ۔

عوه: ا۔ عَاهَ ـُ عُوُوُهًا و عِیهَ الزرعُ: کھیتی کا آفت زدہ ہونا۔ ـ الرجُلُ: آفت رسیدہ کھیت یا جانوروں کا مالک ہونا صفت عَائِه وعَاهٍ وعَاهٌ و اَعُوَهُ۔ عَوَّهَ: آفت زدہ کھیت یا جانوروں کا مالک ہونا۔ ـ الرجُلَ: کو آفت پہنچانا۔ اَعَاهَ اِعَاهَةً و اَعُوَهَ اِعُواهًا و تَعَوَّهَ تَعَوُّهًا: آفت زدہ کھیت یا جانوروں والا ہونا۔ العَاهَة جمع عَاهَات: آفت۔ اهلُ العَاهات: آفت رسیدہ لوگ۔ المَعِیُوه والمَعُوه و المَعِیه من المواشی وغیرها: آفت رسیدہ مویشی وغیرہ۔

۲۔ عَوَّهَ القومُ: کچھ دیر سونے کیلئے سفر میں ٹھہرنا۔ ـ علیهم: کے پاس ٹھہرنا، اقامت کرنا۔

○ عَاهَة جمع عَاهَات: بیماری، کمزوری، درماندگی، ضعف، خستہ حالی، جسمانی نقص، جسمانی معذوری، پت روگ ہمس اور پالا، پودوں کا جھلسنا، پھپھوندی وغیرہ۔ مَعُوه: پت روگ والا، ہمس پالا کا مارا ہوا جھلسا ہوا، پھپھوندی لگا ہوا۔ مَعِیُوه: بمعنی مَعُوه۔

عوی: ا۔ عَوَی ـِ عُوَاءً وعَیًّا و عَوَّةً وعَوِیَّةً الکلبُ والذئبُ وابنُ آوی: کتے، بھیڑیے اور گیدڑ کا بھونکنا، عوام عَوُعَی کہتے ہیں جو ایک سریانی لفظ ہے، کہا جاتا ہے: فلانٌ مایعوی و ما ینبح: فلاں کمزور ہے۔ ـ القومَ الی الفتنه: لوگوں کو فساد کی طرف بلانا۔ ـ عَیًّا وعَوَّی عَن الرجل: کی طرف سے جواب دینا اور غیبت کرنے والے کو جھٹلانا۔ عَاوَی مُعَاوَاةً الکلابَ: بھونک کر کتوں کو بھونکنے پر اکسانا۔ تعَاوَی تَعَاوِیًا القومُ علی فلان: پر ہجوم کرنا۔ اِعُتَوَی اِعُتِوَاءً الکلبُ: کتے کا بھونکنا۔ اِسُتَعُوَی اِسُتِعُوَاءً ہٗ: کو بھونکوانا۔ ـ القومَ: سے فریاد کرنا، کو فتنہ پر ابھارنا۔ العَوَّاء (ح): بہت بھونکنے والا کتا۔ العَوَّة (مص): آواز، شور۔ المُعَاوِیة (ح): کتیا (ح): لومڑی کا بچہ۔

۲۔ عَوَی ـِ عَیًّاہٗ عن الشیئ: کو سے باز رکھنا۔ وعَوَّی القوسَ ونحوَها: کمان وغیرہ کو جھکانا۔ ـ الحبل اوالشَعَرَ: رسی یا بالوں کو موڑنا۔ اِعُتَوَی اِعُتِوَاءً الشیئَ: کو موڑنا۔ اِنعَوَی اِنعِواءً: مڑنا۔

۳۔ العَوَّة والعُوَّة: چوتڑ۔

○ عَوَی ـِ عُواءً: (کتے، بھیڑیے گیدڑ) کا بھونکنا، چیں چیں کرنا، چوں چوں کرنا، جھینکنا، عَاوَاہ: پر بھونکنا۔ اِسُتَعَوی ہ: کو بھونکنے کے لئے کہنا۔ عُوَاء: بھونکنا، کتے بھیڑیے اور گیدڑ کی چیخیں۔

عیب: ا۔ عَابَ ـِ عَیُبًا الشیئَ: کو عیب دار کرنا، بنانا، صفت فاعلی عائب صفت مفعولی: مَعِیب ومَعُیُوب۔ ـ فلانًا: کو عیب کی طرف منسوب کرنا۔ ـ الشیئُ: عیب دار ہونا صفت عائب۔ عَیَّبَ وتَعَیَّبَ الرجلَ: کو عیب کی طرف منسوب کرنا۔ ـ الشیئَ: کو عیب دار بنانا۔ تَعَایَبَ القومُ: ایک دوسرے کا عیب بیان کرنا۔ العاب: عیب، برائی۔ العَیب (مص) جمع عُیُوب: برائی۔ العَیبة جمع عِیَب وعِیَاب وعِیبَات: ایک بار عیب جوئی کرنا، برائی۔ العَیّاب و العَیَّابَة والعُیَبَة: بڑا عیب جو۔ المَعَاب والمَعَابَة جمع مَعَایِب: برائی۔ المَعِیب والمَعُیُوب: عیب دار۔

۲۔ العَیُبَة جمع عِیَب وعِیَاب وعِیَبَات: چمڑے کی زنبیل۔ کپڑوں کو محفوظ رکھنے کا صندوق۔ ـ عند العامة:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ٹھگھو گھوڑے وغیرہ۔ یہ لُعَیْبَۃ کا مخفف اور لُعْبَۃ کا مُصَغَّر ہے۔ ــــ من الرجل: بھید کی جگہ۔ العِیَاب: سینے اور دل۔ المُعَیِّب: زنبیل ساز۔

○ عَابَ ـِ عَیْبًا: ناقص ہونا، نامکمل ہونا، غلط ہونا، داغ دار ہونا، بگڑی ہوئی شکل والا ہونا، ناتمام ہونا، ناقص ہونا، غلطیوں سے پر ہونا، خطا کار ہونا، قصوروار ہونا۔ ــ ہ: کو ناقص کرنا، داغدار کرنا، کو بگاڑنا، خراب کرنا، کاستیاناس کرنا، کی شکل بگاڑنا، کی صورت بگاڑنا۔ ــــ ہ / ہ کی غلطیاں نکالنا، پر اعتراض کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا، ــ ہ: پر غلطی یا برائی کا الزام لگانا۔ ــ ہ / ہ کا موجب رسوائی ہونا، کو ذلیل کرنا، کی ذلت کا موجب ہونا۔ ــــ ہ علی: کو پر ملامت کرنا، کی پر مذمت کرنا، پر کا الزام لگانا، پر کو برا بھلا کہنا، کی وجہ سے کی مذمت کرنا، برائی کرنا، میں نقص نکالنا، عیب لگانا۔ عَیَّبَ ہ: کو ناقص کرنا، نکما کرنا، کو بگاڑنا، کی صورت بگاڑنا، کی شکل بگاڑنا۔ ــــ ہ / ہ کی غلطیاں نکالنا، پر اعتراض کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا۔ ــ ہ: کو غلطی یا برائی کا الزام دینا، پر غلطی یا برائی کی تہمت لگانا۔ ــــ ہ: کو ملامت کرنا، کی مذمت کرنا، برا بھلا کہنا، کی برائی کرنا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا، کو سرزنش کرنا، کو سرکاری طور پر سرزنش کرنا، کو ملامت کرنا، کو ڈانٹنا، جھڑکنا، کو سخت سست کہنا۔ عَیْب جمع عُیُوب: نقص، خامی، داغ دھبہ، خرابی، عیب، سقم، کمزوری، ادھوراپن، برائی، گناہ، پسندیدہ کمزوری، رسوائی، فضیحت، بے عزتی، ذلت، موجب رسوائی یا شرمناک بات۔ عیب جسمی: جسمانی نقص۔ عیب علیك: شرم شرم، تمہیں شرمندہ ہونا چاہئے۔ عَیْبَۃ جمع عَیْبَات و عِیَب و عِیَاب: چمڑے کا بیگ، چمڑے کا سوٹ کیس: غلطی، نقص، داغ دھبہ، رسوائی۔ مَعَاب جمع مَعَایب: غلطی، نقص، داغ دھبہ، کمی، سقم، خرابی، عیب، ادھوراپن، برائی، گناہ، ذلت، رسوائی، بے عزتی، فضیحت، مَعِیب: ناقص، نامکمل، غلط، داغ دار، غیر صحت مند، بیمار، شرمناک، رسوائی کا موجب۔ مَعْیُوب بمعنی مَعِیب۔ مُعَیِّب: عیب جوئی کرنے والا، معترض نکتہ چین، عیب جو، حرف گیر۔

عیث: ۱۔ عَاثَ ـِ عَیْثًا و عُیُوثًا و عَیَثَانًا الشیٔ کو خراب کرنا، کہا جاتا ہے: عَاثَ الذئبُ فی الغنم و عاث فی الارض فسادا: بھیڑیے نے بکریوں میں تباہی مچادی، اس نے زمین میں غارت گری کی۔ ــــ فی مالہ: مال میں فضول خرچی کرنا اور خرچ کرنے میں جلدی کرنا صفت مذکر: عَیْثَان صفت مونث: عَیْثَی ــــ العائث (ح): شیر۔ العَیْثَۃُ: ایک بار کی فساد انگیزی۔ العَیُوث و العَیَّاث: بہت فساد مچانے والا۔ (ح): شیر۔

۲۔ عَیَّثَ: اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولنا، کہا جاتا ہے: عَیَّثَ یفعل کذا: وہ ایسا کرنے لگا۔

۳۔ تَعَیَّثَت الابلُ: اونٹوں کا سیرابی سے کم پانی پینا۔

۴۔ العَیْثَۃ: نرم زمین۔

○ عَاثَ ـِ عَیْثًا فی: میں آفت پیدا کرنا، تباہی و بربادی کا باعث بننا، لوٹ مار اور غارتگری مچانا، طوفان بپا کرنا، عاث فسادا فی: میں لوٹ مار مچانا، تباہی و بربادی کرنا۔ ــــ فی مالہ: اپنا مال ضائع کرنا، اپنی دولت اڑانا، برباد کرنا۔ عَیَّثَ: اندھیرے میں ٹٹولنا، ٹامک ٹوئیے مارنا۔

عیج: عَاجَ ـِ عَیْجًا بالشیٔ: کی پرواہ کرنا کہا جاتا ہے: لا اعیج بکلامہ: میں اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ ما عِجْتُ بالشیٔ: میں اس سے راضی نہیں ہوا۔ شربتُ الدواءَ فما عِجْتُ بہ: میں نے دوا پی مگر مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔

○ عَیَّدَ: جشن یا تہوار منانا۔ ــ علی: کو مبارکباد دینا، یا کہنا (کسی جشن، تہوار یا عید پر)، سے خوش و خرم (عید، جشن، تہوار) کی تمنا کا اظہار کرنا۔ عَایَدَ علی: (عید، جشن، تہوار کے موقع پر) کو مبارکباد دینا، سے خوش و خرم عید، جشن، تہوار) کی تمنا کا اظہار کرنا۔ عِید جمع اَعیاد: عید، جشن، تہوار، خوشی، مسرت، چھٹی، تعطیل۔ عید الرسل: سینٹ پیٹر اور پال کا دن۔ عیدُ الصعود: رفع مسیح کا دن۔ العید الصغیر: چھوٹی عید۔ عید الفطر: عید الفطر، چھوٹی عید۔ عید الاضحی: عید قربانی۔ العید الکبیر: عید الاضحیٰ، بڑی عید۔ عیدُ الکِسْوَۃ: شوال کے مہینہ میں قاہرہ سے مکہ معظمہ میں کِسْوَۃ (غلاف کعبہ) کی رسمی منتقلی کے موقع پر منایا جانے والا تہوار۔ عیدیۃ: تہوار کے موقع پر دیا جانے والا تحفہ، سال نو کا تحفہ۔ مُعَایَدَۃ: تہوار منانا، مبارکبادوں کا تبادلہ، جمع معایدات: عید، تہوار جشن کے دنوں میں مبارکبادی کے لئے آنا۔

عیر ۱۔ عَارَ ـِ عَیْرًا: حیرانی کے ساتھ آنا جانا۔ الفرسُ: گھوڑے کا ناک کی سیدھ میں بھاگنا کہ کوئی چیز اسے نہ پھیر سکے۔ اسم العِیَار۔ ــ ت القصیدۃ: قصیدہ کا مشہور ہونا۔ اَعَارَ اِعارۃً الفرسَ: کو چرنے کے لئے چھوڑ دینا۔ العَائِر (فا): حیران، چکر لگانے والا۔ سہمٌ عائرٌ: وہ تیر جس کے چلانے والا کا پتہ نہ ہو۔ قَصِیدَۃٌ عَائِرَۃٌ: مشہور قصیدہ۔ شاۃ عائرۃ: بکری جو دو گلوں کے درمیان پریشان پھرے کہ کدھر جائے۔ العَیْر (مص) جمع اَعْیَار و عُیُور و عُیُورَۃ و عِیَارَات مونث عَیْرَۃ (ح): گدھا، گورخر، گورخر کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ العِیر جمع عِیَرَات و عِیْرَات: قبیلہ حمیر کا قافلہ، پھر تمام قافلوں پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ العِیَار: عَیْر کی جمع۔ العَیَّار: بہت پھرنے والا، آوارہ گرد۔ فرسٌ عَیَّار: بدک کر بھاگ جانے والا گھوڑا۔ المُعَار من الخیل: گھوڑا جو سوار کے ساتھ راستہ سے ہٹ جائے۔ المُسْتَعِیر: جو گدھے کے مشابہ ہو۔

۲۔ عَارَ ـِ عَیْرًا فلانًا: پر عیب لگانا۔ عَیَّرَ فلانا: کی عار کی طرف نسبت کرنا، کے کام کی برائی بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے: عَیَّرہ کذا و عَیَّرہ بکذا: کو عار دلانا۔ تَعَایَرَ القومُ: ایک دوسرے کا عیب بیان کرنا، ایک دوسرے کو شرم دلانا۔ العار جمع اَعْیَار: عیب، ہر وہ قول اور فعل جس سے آدمی کو شرم آئے۔ المَعَایِر عیوب

۳۔ عَیَّرَ الماءُ: پانی کا کائی والا ہونا۔

۴۔ عَایَرَ مُعَایَرَۃً و عِیَارًا فلانًا: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ ــــ المِکْیَالَ او المِیْزَانَ: ناپ تول کو جانچنا تاکہ معلوم ہو کہ وہ صحیح ہے۔ العِیَار جمع عِیَارَات: روپے، اوزان اور ناپنے کی چیزوں کا قانونی پیمانہ، معیار۔ عِیَارُ الشیٔ: پیمانہ۔ عِیار الدراھم او الدنانیر درہموں اور دیناروں کا ٹھپہ۔ المِعْیَار جمع مَعَاییر: کسوٹی

۵۔ اَعَارَ اِعارۃً الفرسَ: گھوڑے کو موٹا کرنا۔ المُسْتَعِیر: موٹا گھوڑا۔

۶۔ العَیْر: ہر ابھری چیز، آنکھ کی پتلی، پلک، کھونٹی، ہودج کے آگے لگی ہوئی لکڑی، پہاڑ، سردار، بادشاہ، ڈھول۔ عَیْرُ القدم: قدم کے بیچ کا ابھرا ہوا حصہ۔ عیرُ النصل: نیزہ یا تیر کے پھل کے درمیان کا ابھرا ہوا حصہ۔ عَیْرُ الورقۃ: پتے کی درمیانی لکیر۔

○ عَارَ ـِ عَیْرًا: ادھر ادھر، مارا مارا پھرنا، بھٹکنا، بھٹکتے پھرنا، بچھڑ جانا، منہ اٹھائے پھرنا۔ عَیَّرَ ہ / ہ / ب / علی: (پر) کی ملامت کرنا، جھاڑ جھپاڑ کرنا، کو ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھپاڑ کرنا، کو برا بھلا کہنا، عیب لگانا، ــ ہ: سے بدسلوکی کرنا، بری طرح پیش آنا، کو گالی دینا، سے سخت کلامی کرنا، کے خلاف دشنام طرازی کرنا، کی بے عزتی کرنا، توہین، ہتک یا اہانت کرنا، کو ذلیل کرنا کو کوسنے دینا، برا بھلا کہنا۔ عَایَرَ ہ (پیمانے، باٹ) جانچنا، کا اندازہ کرنا، کی جانچ کرنا، کی درستی جانچنا۔ تَعَایَرَ: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ عَار جمع اَعْیَار علی: پر بے عزتی، رسوائی، فضیحت، عار، ذلت، موجب

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رسوائی، شرمناک بات۔ عَیر جمع اَعْیَار: جنگلی گدھا۔ عِیر جمع عِیرات: قافلہ، کاروان۔ لا فی العیر و لا فی النفیر: نہ یہاں نہ وہاں، کسی طرح نہیں، غیر اہم۔ عِیَار جمع عِیَارات: پیمانہ، مقدار، ناپ، پیمائش، معیار، (ناپ تول کا) پیمانہ: (سونے چاندی کی اشیاء کا) کھرا پن۔ بندوق وغیرہ کی اندرونی قطر کی نالی جمع عیارات و اَعْیِرَة نیز عیار ناری: فائر۔ عَیَّار جمع عَیَّارُون: آوارہ گرد، کوچہ گرد، ہرزہ گرد، بدذات، بے اصول شخص، پکا آوارہ گرد، مفت خورہ، بے گھر، بے در، خانہ بدوش، عَیَّار جمع عیارات: کرین۔ مِعْیَار: ناپنا، مساحت، جانچنا، اندازہ کرنا، پیمائش، مقدار ناپ، درجہ، جمع مَعَایِیر: معیاری پیمانہ، پیمائش اور وزن کا پیمانہ، معیار۔ مِعْیَارُ العیش. معیار زندگی۔ مِعْیَارُ الذھب: سونے کا معیار۔ مَعَایِر (جمع) غلطیاں، برائیاں، گناہ، بدنامیاں، رسوائیاں، نفرتیں۔ مُعَایَرَةُ المَوَازِین و المکاییل: باٹوں اور پیمانوں کی تصدیق۔

عیس: اَعْیَسَ اِعْیَاسًا الزرعُ: کھیتی کا خشک ہونا، تَعَیَّسَ ت الابلُ: اونٹوں کا بھورے رنگ والا ہونا۔ العِیس واحد اَعْیَس (مذکر) اور عَیْسَاء (مونث): بھورے رنگ کے اونٹ، عمدہ قسم کے اونٹ۔ العَیَس و العِیسَة بھورا رنگ۔ العَیْسَاء (ح) مادہ ٹڈی۔ عِیسٰی: عبرانی لفظ۔ مسیح علیہ السلام کا نام۔ نسبت کے لئے عِیسَوِی اور عِیسِیّ آتا ہے۔

○ عَیْسَلان: سنبل۔

عیش: عَاشَ ـِ عَیْشًا و عِیشَةً و مَعَاشًا و مَعِیشًا و مَعِیشَةً و عَیْشُوشَةً: زندہ رہنا۔ عَیَّشَ و اَعَاشَ اِعَاشَةً ہٗ: کو زندہ رکھنا۔ عَایَشَ ہٗ: کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تَعَیَّشَ: اسبابِ زندگی کے لئے کوشش کرنا۔ تَعَایَشَ القومُ بالالفة و المودۃ: محبت اور پیار سے ایک ساتھ زندگی گزارنا۔ العَائِش (فا): کہا جاتا ہے۔ ھو رجلٌ عائش: اس کی حالت اچھی ہے۔ العَیْش (مص): زندگی، کھانا، روٹی۔ — والـــعِیشَة: زندگی کی حالت، کہا جاتا ہے: عیشۃٌ راضِیَةٌ: پسندیدہ حالت زندگی۔ العَیَّاش: روٹی بیچنے والا، کھانا فروخت کرنیوالا۔ عائش کا مبالغہ۔ المَعَاش جمع مَعَایِش: کھانے پینے کی اشیاء جن سے گزران ہوسکے۔ ذریعہ زندگی، زندگی کی تلاش کا وقت یا جگہ۔ المَعِیشَة جمع مَعَایِش: کھانے پینے کی اشیاء جن سے گزران ہوسکے۔ ذریعہ زندگی۔ المُتَعَیِّش (فا): جس کے پاس گزر بسر کیلئے کچھ ہو۔

○ عَاشَ المَلِکُ یَالَیْعِشِ المَلِکُ: بادشاہ زندہ باد۔ عَاشَ حَیَاتَهٗ: اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا، اپنی زندگی سے اچھی طرح فائدہ اٹھانا۔ تَعَیَّشَ ب: سے بڑی مشکل سے گزارہ کرنا، سے روزی کمانا، سے آمدن کے اندر گزر بسر کرنا۔ ـــ مِن: پر زندگی بسر کرنا، پر یا سے زندہ رہنا۔ عَیْش: زندگی، زندہ رہنے کا انداز، طرزِ زندگی، معاش زندگی، ذریعہ آمدنی، ذریعہ معاش، وجود، بقا، ہستی، روٹی۔ مُسْتَوَی العیش: معیار زندگی۔ عیش غراب: سانپ کی چھتریاں، کھمبی۔ عِیشَة: زندگی کی قسم، طرزِ زندگی، زندگی۔ مَعَاش: زندگی، طرز زندگی، زندگی کا سٹائل۔ روزی، ذریعہ معاش، آمدنی۔ جمع معاشات: ریٹائرمنٹ کی تنخواہ، پنشن، کسی عوامی بہبود کے فنڈ سے ملنے والے منافع یا الاؤنس۔ ذو المَعَاش: پنشنر۔ ارباب المعاشات: پنشنر لوگ۔ اُحِیلَ الی (علی) المَعَاش: ریٹائر ہونا، پنشنر ہوجانا، پیرانہ سالی کے باعث سبکدوش ہوکر وظیفہ پانا۔ مَعِیشَة جمع مَعَایِش: زندگی، طرز زندگی، رہنے کا طریقہ، روزی، اہل خانہ۔ مَعِیشَةُ الریف: دیہاتی زندگی، دیہات کی زندگی۔ مَعِیشِی: طرزِ زندگی سے متعلق الحالة المعیشیة: معیار زندگی۔ مُعَایَشَة: مل جل کر رہنا، پہلو بہ پہلو زندگی۔ اِعَاشَة: غذائیت، خوراک، غذاء۔ بطاقة الاعاشة: راشن کارڈ۔ تَعَایُش: مل جل کر رہنا، عائش: زندہ، امیر، خوشحال۔

عیص: العِیص جمع اَعْیَاص و عِیصَان: گنجان درختوں کا جنگل، وہ جگہ جہاں اچھے درخت اگتے ہوں۔ اصل، کہا جاتا ہے: ھو من عیصٍ کریم: وہ شریف الاصل ہے۔ المَعِیص: درختوں کے اگنے کی جگہ۔

عیط: ا۔ عَاطَ ـِ عَیْطًا تِ العُنُقُ: گردن کا لمبا ہونا۔ عَیِطَ ـَ عَیَطًا الرجلُ: لمبی گردن والا ہونا۔ صفت اَعْیَط: لمبی گردن والا۔ عَیْطَاء لمبی گردن والی، دونوں کی جمع عِیط۔ تَعَیَّطَ ت العُنُقُ: گردن کا لمبا ہونا۔ ھَضْبَةٌ عَیْطَاء: اونچا ٹیلہ، اونچی پہاڑی۔

۲۔ عَیَّطَ تَعْیِیطًا: چیخنا، چلانا، عام لوگ کہتے ہیں: عَیَّطَ لَهٗ: اس نے اسے آواز دی۔ تَعَیَّطَ: غضبناک ہونا۔ القومُ: لوگوں کا چیخنا، شور مچانا۔ العَائِط (فا): جمع عُوط و عِیط و عُیَّط و عُوطَط و عِیطَات: چیخنے والا، کہا جاتا ہے۔ عَائِط عِیطٍ و عُوطٍ و عُوطَطٍ: بہت چیخنے والا۔ العِیَاط: چیخ پکار، شور و غل، عام لوگ کہتے ہیں: عَیْطَة

۳۔ تَعَیَّطَ العُودُ: لکڑی سے پانی جیسی چیز کا نکل کر گوند بننا۔

○ عَیَّطَ عَلی: کو چیخ کر بلانا، کو پکارنا، آواز دینا، اونچی آواز سے بلانا۔ عَیَّطَ: رونا، چیخنا، چلانا۔ عِیَاط: چیخ پکار، شور، غوغا دہائی۔

عیف: ا۔ عَافَ ـَ عَیْفًا و عِیَافًا و عَیَفَانًا الطعامَ و غیرَهٗ: کھانے وغیرہ کو کراہت کی بنا پر چھوڑ دینا۔ اَعَافَ اِعَافَةً القومُ: پانی ناپسند کرکے نہ پینے والے جانوروں کا مالک ہونا۔ اِعْتَافَ اِعْتِیَافًا الطعامَ و غیرَه: کھانے وغیرہ کو کراہت کی بنا پر ترک کردینا۔ العَائِف (فا): چیز کو ناپسند کرنے اور اس کے گندہ پن کی وجہ سے گھن کرنے والا۔ العَیُوفَة: ایک بار مکروہ جاننا۔ العِیفَة: کراہت کی نوعیت۔ العَیْفَان و العُیُوف: بمعنی عَائِف العَیَّفان: نفرت کرنے کا عادی۔ المَعِیف: مکروہ، ناپسندیدہ۔

۲۔ عَافَ ـِ عِیَافَةً الطیرَ: پرندے اڑا کر اچھی بری فال لینا۔ العَائِف (فا): پرندوں وغیرہ سے شگون لینے والا۔ المُتَعَیِّف: شگون لینے والا۔ فال نکالنے والا۔ ابتکرتُ ابتکار المُتَعَیِّف: صبح سویرے آنا۔

۳۔ عَافَ ـِ عَیْفَانًا الطیرُ: پرندوں کا منڈلانا اسم عَیْفَة۔ عَیْفَةُ الطائر: پرندوں کا کسی چیز پر منڈلانا۔ نسورٌ عَوَائِف: مقتولوں پر منڈلانے والے گدھ۔

۴۔ اِعْتَافَ اِعْتِیَافًا: سفر کیلئے توشہ لینا۔

۵۔ العِیفَة: عمدہ مال۔

○ عَافَ ـَ عَیْفًا و عِیَافًا و عَیَفَانًا ہ: سے سخت نفرت کرنا، سے متنفر یا بیزار ہونا۔ سے کراہت محسوس کرنا۔ عَیْف: کراہت، نفرت، خوف، دہشت، بیزاری۔ عَیَّاف: پرندوں کی پرواز سے فال نکالنے والا۔ عَیُوف: مغرور، متکبر، حقارت آمیز۔ عَیَفَان: نفرت، تنفر، کراہت، خوف، دہشت، بیزاری۔

عیق: عَاقَ ـِ عَیْقًا بمعنی عاق یعوق عَوقًا: (باب عوق میں دیکھئے)۔

عیک: عَاکَ ـِ عَیَکَانًا: مونڈھے کو ہلاتے ہوئے چلنا۔

عیل: ا۔ عَالَ ـِ عَیْلًا و مَعِیلًا ۂ الشیءُ: چیز کا کے قبضہ سے نکل جانا اور دشوار ہونا۔ ـــ عَیْلًا و عَیْلَةً و عُیُولًا و مَعِیلًا: محتاج ہونا صفت عائل جمع عائلة: اسم عَیْلَة۔ ـــ الرجلُ: کثیر العیال ہونا، بہت اولاد والا ہونا۔ عَیَّلَ: کثیر الاولاد ہونا۔ ـــ عِیَالَهٗ: اپنی اولاد کی معاش کی طرف سے کافی ہونا۔ ـــ القومَ: کو عیال بنا لینا یا نظر انداز کردینا۔ فرسَهٗ: اپنے گھوڑے کو نظر انداز کرنا، بیکار چھوڑ دینا۔ اَعْیَلَ اِعْیَالًا: کثیر العیال ہونا صفت مُعْیِل مونث مُعْیِلَة۔ العائل (فا) جمع عَالَة و عُیَّل و عِیل و عَیْلٰی: محتاج۔ العَالَة: فاقہ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کہاجاتا ہے۔ ھو عَالَۃٌ علیھم: وہ لوگ، اس کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہیں۔ وہ ان پر بوجھ ہے۔ العِیال (ع و ل دیکھیں)۔ العِیَالَۃ و المَعَالۃ للبرذون وغیرہ: چارہ (برذَون ترکی گھوڑے۔ٹٹو) عَیْلَۃَ الرجُلِ و عَائلتُہٗ گھر کے لوگ جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہو۔ کہاجاتا ہے: اَمْسَیتُ اخاعَیْلَۃٍ: میں مفلس ہوگیا۔ طالت عَیْلَتی ایّاكَ کفالت کی مدت لمبی ہوگئی۔ عَیِّلُ الرجُل جمع عَیَایِل گھر کے افراد۔ کہاجاتا ہے عندہ کذا و کذا عَیِّلاً اس کے گھر کے افراداتنے ہیں۔ رجُلٌ مُعَیَّلٌ اہل وعیال والا۔

۲۔ عَالَ ـِ عَیْلاً و مَعِیْلاً فی مشیہ متکبرانہ چال چلنا، نازوانداز سے چلنا۔ تعَیَّلَ فی المشی نازوانداز سے چلنا، متکبرانہ انداز سے چلنا۔ العَیَّال ناز سے چلنے والا۔

۳۔ العَیْلان (ح) نر بجو۔

○ عَالَ ـِ عَیْلَۃً: غریب ہونا یا ہوجانا، مفلس ہوجانا، عَیَّلَ و اَعْیَلَ: بڑے کنبے والا ہونا۔ عَیِّل و عِیَال وعَالَۃ و عَائلۃ: کے لئے دیکھیں عول۔ عائِل غریب، ضرورت مند، مفلس، قلاش محتاج، مُعِیْل و مُعَیَّل: بڑے کنبے والا، بڑے کنبے کے لئے کمانے والا۔

عیم: ۱۔ عَامَ ـَ عَیْمًا و عَیْمَۃً: دودھ کا خواہشمند ہونا۔ اَعَامَ اِعَامَۃً ہُ اللّٰہُ اللہ تعالیٰ کا کسی کو بغیر دودھ کے چھوڑنا۔ الرجُلُ بغیر دودھ کے رہنا۔ ـ القومُ کے پاس دودھ کی قلت ہونا۔ العَیْمَۃُ: دودھ کی سخت خواہش۔ العَیمان م عَیْمَی جمع عَیَامَی: دودھ کا خواہشمند۔

۲۔ اِعْتَامَ اِعْتِیَامًا عمدہ مال چھانٹ لینا۔ العِیْمَۃ عمدہ مال

۳۔ العَیَام دن، کہاجاتا ہے: سرنا العَیَامَ کلّہٗ ہم سارا دن چلتے رہے۔

عین: ۱۔ عَانَ ـِ عَیْنًا الرجُلَ کو نظر لگانا۔ عَائِن نظر لگانے والا۔ مَعِین و مَعْیُون جس کو نظر لگی ہو۔ عِیَانَۃً القومَ لوگوں کے پاس خبر لیکر آنا۔ ـــ علی القومِ: کا جاسوس بننا۔ عَیِنَ ـَ عَیَنًا و عِیْنَۃً: آنکھ کا خوب چوڑی پتلی والا ہونا۔ عَیَّن تعْیِیْنًا فلانًا: کی برائیوں کو اس کے منہ پر کہنا۔ ـــ علی فلان: کے خلاف جاسوسی کرنا۔ ـــ اللؤلؤۃَ: موتی پرونا۔ ـــ القربۃ: مشک میں پانی ڈالنا تاکہ سلائی کے سوراخ بند ہوجائیں۔ العینَ حرف عین لکھنا۔ عَایَنَ عِیَانًا و مُعَایَنَۃً ہٗ: کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ کا معائنہ کرنا، کہاجاتا ہے: ما اَعْیَنَہٗ: وہ کتنا بدنظر ہے۔ تَعَیَّنَ ہٗ: کو نظر بد لگانا۔ ـــ الشئَ کو دیکھنا۔ ـــ

الرجُلَ: کو یقینی طور پر دیکھنا۔ ـ الجلدُ کھال کا آبلہ دار ہونا۔ السِقاء: کہنگی کی وجہ سے مشک میں چھوٹے چھوٹے دائروں کا پڑا ہونا۔ اِعْتَانَ الشئَ: چیز کا عمدہ حصہ لے لینا۔ ـــ القومَ لوگوں کے پاس خبر لیکر آنا۔ ـ لفلان منزلاً: کے گھر جانا یا گھر کی سیاحت کرنا۔ کا گھر تلاش کرنا۔ العائِن (فا) کہاجاتا ہے: مابالدار عائِنٌ: گھر میں کوئی نہیں۔ العَائِنَۃ: عائن کا مونث: کہاجاتا ہے لقیتہ اول عائنۃٍ او ادنی عائنۃٍ: میں نے سب سے پہلے اس سے ملاقات کی۔ عائِنَۃُ بنی فلان: مال اور محافظین مال۔ العَیْنُ (مص) جمع اَعْیُن وعُیُون وعِیُون و اَعْیَان و جج اَعْیُنات و تصغیر عین عُیَیْنہ لفظ مونث ہے۔ (ع ۱) آنکھ، آنکھ کا ڈھیلا، پلک وغیرہ سمیت سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ حس نظر، (کہاجاتا ہے ھو قویُّ العین: اس کی حس نظر قوی ہے۔) بدنظری (کہاجاتا ہے: بہ عَیْنٌ: وہ بد نظر ہے۔) انسان، (اس سے ہے: مابالدار عَیْنٌ: گھر میں کوئی نہیں) اہل شہر، اہل خانہ، نفیس، عزت جھنڈا، کھال پر چھوٹے چھوٹے حلقے، گروہ، چیز کا عمدہ حصہ، سردار، شریف قوم، فوج کا سربراہ، گارڈ، سنتری، جاسوس، لشکر کا ہراول دستہ، آفتاب، یا شعاع آفتاب، نظر، دیکھنے کی جگہ، کہاجاتا ہے: فلانٌ عین علی فلان: فلاں فلاں کے اوپر نگہبان ہے۔ ھو عبد عین او صدیقُ عینٍ: وہ دکھاوے کا خادم یا دوست ہے۔ لقیتُہ عینَ عُنَّۃً: میں اس سے اس طرح ملا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ لقیتہ اوّلَ عینٍ میں سب سے پہلے اسے ملا۔ لاتطلب اَثَرًا بعد عین: معائنہ کے بعد اثر کومت طلب کرو، یہ ایسے موقع کے لئے ضرب المثل جب کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور چھوڑ دے اور گم ہوجانے پر اس کے اثر کے درپے ہوجائے۔ صار خبرًا بعد عینٍ۔ معائنہ کے بعد وہ خبر بن گیا۔ انت علی عینی: تم میری سر آنکھوں پر ہو۔ یعنی تم میرے نزدیک معزز ومحترم ہو اور ساتھ ہی میری حفاظت میں بھی۔ ھاھو عَرَضَ عَیْنٍ: وہ قریب ہے۔ فعلَہٗ علی عینٍ و علی عینین و عَمْدَ عینٍ و عَمْدَ عینین و عمدًا علی عینٍ: اس نے وہ کام سنجیدگی اور یقین کے ساتھ کیا۔ فَقَأَ عینَہ: اس نے اسے طمانچہ مارا اور برا بھلا کہا۔ نَعِمَ اللّٰہُ بِكَ عَیْنًا اللہ تم سے آنکھ ٹھنڈی رکھے۔ عینُ الابرۃ: سوئی کا ناکہ، اَعْیَانُ القومِ قوم کے شریف اور اعلیٰ لوگ۔ العِین (ح): نیل گائے۔

marfat.com

العِیان (مص): جمع عُیُن و اَعْیِنَۃ: شخص، کہاجاتا ہے لقیہ او راہ عِیانًا اس نے اس سے ملاقات کی یا اسے دیکھا اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں۔ العِیانیّ من الشھود: چشم دید گواہ۔ العِینۃ جمع عِیَن: عمدہ مال۔ ـــ من النعجہ بکری کے آنکھ کا حلقہ۔ عِیْنَۃُ الخیل عمدہ گھوڑے کہاجاتا ہے۔ ثوبُ عِیْنَۃٍ عمدہ نظر آنے والا کپڑا۔ العَیْنِیَّۃ عین سے متعلق۔ عین کی طرف منسوب۔ عَیْنِیَّۃُ الشئ (ت): کسی چیز کا نمونہ، سیمپل۔ العُیَیْنَۃ: عین کی تصغیر۔ عام لوگ کہتے ہیں: عُوَینہ جسکی جمع عُوَینات ہے۔ العُوَینات (عند العامۃ) عینک، جسے آج کل نظارات کہاجاتا ہے۔ العَیُون جمع عِین وعُیُن بہت نظر لگانے والا۔ بدنظر۔ الأعْیَن م عَیناء: جمع عِین: جس کی آنکھ کی پتلی بڑی اور چوڑی ہو۔ (ح) جنگلی بیل۔ العَیْنَاء: خوبصورت آنکھوں والی عورت۔ خوبصورت بات، کہاجاتا ہے: ارضٌ عیناء: سرسبز زمین۔ العَیَّان و المِعیان: بہت نظر لگانے والا۔ المُعَانیَۃ (مص): برادری، المَعَان: منزل: کہتے ہیں: ھم منك بمعان: وہ لوگ ایسے مقام پر ہیں کہ تم انہیں دیکھ سکتے ہو۔ المَعِین و المَعْیُون: ظاہر جسے آنکھ زمین پر چلتا دیکھتی ہو۔ چشمہ المُعتان: پیشوائے قوم۔ المُعَیَّن (ح): بیل، سانڈ، نرگاؤ (آنکھیں بڑی ہونے کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا ہے) وہ کپڑا جس کے نقش ونگار میں وحشی جانوروں کی آنکھوں کے مثل خانے ہوں۔ علم ہندسہ کی اصطلاح میں ایسی مسطح شکل کا نام جس کے چاروں ضلعے مستقیم مساوی ہوں۔ لیکن زاویے قائم نہ ہوں۔ معین شکل بنانا۔ کہا جاتا ہے نیۃٌ مُعَیَّنَۃٌ و مُعَیِّنۃ واضح اور کھلا ہوا ارادہ، ظاہر نیت۔

۲۔ عَانَ ـِ عَیْنًا و عَیَانًا و عَیَنَانًا الماءُ او الدمعُ: پانی یا آنسو کا بہنا۔ ـ ت البئرُ کنویں کا بہت پانی والا ہونا، کہاجاتا ہے۔ حفرتُ حتی عِنْتُ: میں نے کھودا حتیٰ کہ پانی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ حفرتُ حتی اَعْیَنْتُ: میں نے کھودا حتیٰ کہ پانی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ العَائِن (فا) کہاجاتا ہے: شربَ من عائِنٍ: اس نے بہتے پانی سے پیا۔ العَیْن جمع اَعْیُن وعُیُون: نالی کے پانی کے گرنے کا مقام، کنویں کے پانی پھوٹنے کی جگہ۔ پانی کا چشمہ۔ عینٌ مَعْیُونۃ: بہت پانی والا چشمہ۔

۳۔ عَیَّنَ تعْیِیْنًا التاجِرُ تاجر کا سامان کو ایک مدت کے وعدے پر فروخت کرنا اور پھر پہلی قیمت سے کم میں

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

دوبارہ خرید کرلینا۔ ــ الرجُلَ: انتخاب سے لینا یا دینا۔
اِعْتَانَ الشئَ: کو ادھار خریدنا۔ العَین جمع اَعْیُن
وعُیُون وعِیون و اَعْیَان: سود، مال، تیار مال۔
دینار، سونے کا سکہ، موجودہ نقدی، ترازو کا جھکاؤ۔ ــ
جمع أعیان: ہر موجودہ اور حاضر شئے، کہا جاتا ہے: بعتُهُ
عَیناً بعینٍ: میں نے حاضر مال کو حاضر مال کے بدلے
بیچ دیا۔ بَیعُ العِینة: ایک وقت تک اپنی قیمت پر چیز
فروخت کرنا اور قیمت کا انتظار کرنا یعنی ادھار فروخت۔
۴۔ عَیَّنَ تَعْیِیناً الشئَ: کو خاص کرنا، علیحدہ کرنا۔ عَیَّنَهُ
فی منصب کذا: کو کسی منصب پر مقرر کرنا۔ عَیَّنَ
علی السارق: ملزموں میں سے چور کی شناخت
کرنا۔ ــ الشئ لفلان: چیز کو کسی کے لئے مخصوص
کرنا، کہا جاتا ہے: ماعیَّن لی بشئ وما عَیَّنَنی
شیئاً: اس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تَعَیَّنَ الرجُلَ: کسی
چیز کے حصول کیلئے توقف کرنا۔ ــ علیه الشئُ: مقررہ
شئ کا کے لئے لازم ہونا۔ ــ فی هذا المنصب: وہ
اس عہدہ یا منصب پر لگایا گیا ہے۔ العَین جمع اَعْیُن
وعُیُون وعِیُون واَعْیَان: خالص، واضح کہا جاتا
ہے: ذکر الحقَ بعینه: اس نے واضح اور خالص طور
پر حق بیان کیا۔ ــ جمع اعیان: وہی چیز کہا جاتا ہے:
هو هو عیناً اوبعینه: وہ وہی ہے، وہ بعینہ وہی ہے یا
ہو بہو وہی ہے۔
۵۔ عَیَّنَ تَعْیِیناً الشجرُ: درختوں کا سرسبز ہونا، شگوفہ دار
ہونا۔
۶۔ عَیَّنَ تَعْیِیناً الحرب بیننا: کے مابین لڑائی کرانا۔
عِیْنَةُ الحرب جمع عِیَن: مادہ جنگ۔
۷۔ أَعَانَ اِعَانَةً (دیکھئے مادہ (عون):
۸۔ العَیْن: کنارا، طرف، پہلو، علاقہ۔ العِیان جمع عُیُن
واَعْیِنَة: ہل کا پھل۔
۹ عَیَّنَ ھ کی تخصیص کرنا، تعیین کرنا، کا خاص کر نام لینا،
کی تفصیلات دینا، کو ایک ایک کر کے لکھنا، تعیین کرنا،
کی صراحت کرنا، کو نام زد کرنا، کو مقرر کرنا، سونپنا،
ٹھہرانا، کا جدول بنانا، کا گوشوارہ تیار کرنا، کو نشان لگانا،
کو لکھ لینا، ممیّز کرنا، واضح کرنا، کی حدود معین کرنا، کی
شرط کرنا۔ ــ ٥٥ / فی کو بطور یا عہدہ پر نامزد کرنا، مقرر
کرنا، معین کرنا۔ ــ ھ کو کے لئے الگ کرنا، علیحدہ
کرنا، منتخب کرنا۔ ــ ھ ل کو کوئی چیز الاٹ کرنا، کو کوئی
حصہ دینا، کو کیلئے مخصوص کرنا، مختص کرنا۔ ــ علی پر
آنکھیں جمانا یا گاڑنا، پر تلا ہوا ہونا۔ ــ عَیَّن سبباً:
وجہ بیان کرنا۔ عَایَنَ ٥/ ھ کو دیکھنا، بچشم خود دیکھنا، کا
جائزہ لینا، کا معائنہ کرنا۔ ــ ھ کا سروے کرنا۔ تَعَیَّنَ
٥/ ھ کو دیکھنا۔ تَعَیَّنَ مخصوص ہونا، مختص ہونا، مقرر
ہونا، نامزد ہونا۔ ــ علی: پر خصوصی طور پر عائد ہونا،
کے لئے لازمی، پر لازم، واجب یا فرض ہونا، کے لئے
ضروری ہونا، کا فرض ہونا۔
عَیْن (مونث) جمع عُیُون و اَعْیُن: آنکھ، بدنظری، چشمہ،
منبع، سرچشمہ (پانی کا) سکاؤٹ، دیکھ بھال کرنے
والا، سوراخ، بہترین حصہ، انتخاب، سب سے اچھا،
بہترین جمع اَعْیَان: ممتاز و اہم شخص، ممتاز لوگ، اہم
لوگ، سرکردہ شخصیات، زعماء، لیڈران، معززین، ممتاز
اشخاص، اصل، اصلی جزو، اصلیت، جوہر، لب لباب،
خود، ذات۔ انفرادیت، شخصیت۔ ــ: جائیداد منقولہ،
اثاثہ، مادی قیمت کی چیز، ذاتی مادہ جائیداد، شخصیت،
اصل اثاثہ۔ ــ: نقد، کیش، حرف عین کا نام، عین
السمکة: گٹا، سَوادُالعین: آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ کی
پتلی، شاهِدُ عین: چشم دید گواہ، عینی شاہد۔ اِسمُ
العین: کسی مادہ شے کا نام، اسم محسوس (Concrete
noun)۔ مجلس الأعیان: سینٹ Senate۔
فرض عین: فرد کا فرض بامٍ عینیه: خود اپنی آنکھوں
سے یعینی رأسه: خود اپنی آنکھوں سے، بچشم خود۔
بعینه: ذاتی طور، بالکل وہی، ہو بہو وہی۔ هو بعینه:
بالکل وہی، هو هو بعینه کوئی اور نہیں، وہی۔ هو
شخص بعینه: وہ ایک حقیقی یا اصلی شخص، وہ فی الواقع
زندہ موجود آدمی ہے۔ للسبب عَیْنِهِ اسی وجہ سے علی
العین و الرأس: بخوشی، بصد شوق۔ رَأْیَ رأیَ
العین: خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، معلوم کرنا، دریافت
کرنا، اعادہ اثرا بعد عین: کسی چیز کو مکمل طور پر تباہ
و برباد کر دینا۔ مَلأ عینه: کی تسلی کرنا، نزل من عینی
میرے دل میں اس کے لئے کوئی احترام نہیں رہا۔
نظر الیه بعین الاحتقار: کی طرف بحقارت
دیکھنا۔ وقعت العین علی العین: لڑائی شروع
ہوگئی۔ عُیُونُ الشعر شعری جواہر، بہترین منتخب
اشعار۔ عَینی: آنکھوں کا یا آنکھوں کے متعلق، چشم
دید، حقیقی، مادی، اہم یا مادی قدر و قیمت کی اشیاء پر
مشتمل جو پیداوار، سامان تجارت یا جنس کی صورت
میں ہوں۔ عُیَیْنَة: شناخت جمع عینیات: آنکھوں
سے متعلق یا عینک کا جزو۔ عَیِّن زوتا ہوا، بسورتا ہوا۔
عَیِّنَة جمع عَیِّنات: بانگی، نمونہ، Sample،
نمونہ، مثال Specimen۔ عَیِّنی نمونہ کا کام دینے
والا، نمونہ کا۔ عُوَیْنَات: عینک، مَعِین: چشمہ، پانی کا
منبع۔ تعیین دیکھیں عَیَّن۔ ــ ح: تَعْیِینَات: راشن،
خوراک، مراقب تعیین: کوارٹر ماسٹر، سٹاف
سارجنٹ۔ مَسؤول تعیین: کوارٹر ماسٹر، سٹاف
سارجنٹ۔ مُعَایَنَة: دیکھا، جائزہ لینا، مساحت،
معائنہ، نگرانی، قابو، کنٹرول، مشاہدہ۔ عِیَان: چشم دید
گواہی دینا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دیکھنا، صاف،
واضح، سیدھا سادہ، لگی لپٹی رکھے بغیر صاف صاف
آشکار۔ شاهد العِیَان: چشم دید گواہ۔ بدا للعیان:
روشنی میں آنا، نظر میں آنا، آنکھوں کے سامنے ہونا۔
شاهد عِیانی: چشم دید گواہ۔ مُعَیَّن مقررہ، معین کیا
ہوا، صراحت کردہ، تقرر کیا ہوا، متعین کیا ہوا، تخصیص
شدہ، نام زد کردہ، جدول بنایا ہوا، گوشوارہ تیار کیا ہوا،
شرط کیا ہوا، شرط مقرر کیا ہوا، مقرر شدہ، مشکل معین
Rhombus جمع مُعَیَّنات: مقرر رقم، نرخ۔ مُعَیَّنُ
الکراء: کرایہ، مکانی کرایہ۔ مُعَایِن: ناظر، تماشائی،
دیکھنے والا، ٹیلیویژن دیکھنے والا۔
عیه: عَاهَ یَعِیهُ عَیْهاً: پر آفت نازل ہونا۔ العَائِهة: چیخ،
شور و غل، چیخ و پکار۔ المَعَاهَة: آفت ارضٌ
مَعْیُوهَة: آفت زدہ سرزمین۔
عیّ: عَیَّ یَعَیُّ عَیّاً و عَیَاءً بامره و عن امره: کام
سے عاجز ہو جانا، کو درست نہ کر سکنا، بصورت مراد تک
رسائی نہ ہونا۔ ــ الامرَ: کام سے ناواقف ہونا۔ عَیِیَ
یَعْیَی عِیاً و عَیاءً بامره و عن امره: بمعنی عَیَّ۔ ــ
الامرَ: کام سے واقف نہ ہونا ــ عِیّاً فی النطق:
بولتے بولتے یکدم رک جانا۔ صفت: عَیٌّ و عَیِیٌّ۔
عَیّاً ــ تَعْیِیَةُ الرجُلَ: ایسی بات کرنا جس کی سمجھ نہ
آئے۔ ــ صاحِبَهُ: ساتھی سے ایسی بات کرنا جس کا
مطلب اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ عَایَا مُعَایَاةً الرجلَ:
ایسی بات کرنا جس کی سمجھ نہ آئے، ــ صاحبه: ساتھی
سے ایسی بات کرنا جس کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ
آئے۔ اَعْیَا اِعْیَاءً الماشِیَ: پیدل چلنے والے کا
تھک جانا، تھکا ماندہ ہو جانا۔ اِعْیَاء: عجز سے کم تر ہے۔
ــ ہٗ: کو تھکا دینا، تھکا ماندہ کر دینا۔ ــ الداءُ
الطبیبَ: بیماری کا طبیب کو تھکا دینا، عاجز کر دینا۔ ــ
الأمرُ علیه: کو کام کا عاجز کر دینا۔ تَعْیّا الامرُ
علیه: کو کام کا عاجز کر دینا۔ بالامر کام کو درست نہ
کر سکنا۔ تعَایَا الامرُ علیه و تَعَایَاه: پر کام کا دشوار
ہو جانا ــ واستَعْیَا بالامر: کام کو درست نہ کر سکنا۔
العَیَاء (مص): عاجز ہونا۔ داءٌ عَیَاءٌ: وہ بیماری جس
سے صحت نہ ہو۔ العَیِیُّ جمع أعیاء و العَیِیّ جمع اَعْیِیَاء
و اَعِیَّة: عاجز از کلام، تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ العَیَّان:
عاجز، تھکا ہوا۔ الاعیاء (طب) مفاصل اور عضلات
میں بہت زیادہ تھکاوٹ جسے تَعَب بھی کہتے ہیں۔
الاُعْیِیَّة: وہ کلام جس کے بیان سے عجز واقع ہو۔
المُعْیِی: تھکا ہوا، عاجز۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

غ

غ تلفظ غین۔ حروف تہجی کا انیسواں اور حروف ابجد کے لحاظ سے ایک ہزار کے برابر۔

غب ۱۔ غَبَّ ـُ غَبًّا و غِبًّا کئی روز کے بعد ملاقات کے لئے آنا۔ اسی سے یہ حدیث ہے۔ زُرْ غِبًّا تزدد حبًّا: کئی دن بعد آؤ تو تم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ ـ عنه: کے پاس ایک دن آنا اور ایک دن نہ آنا۔ ـــ علیه الحُمّٰی: کو ایک دن چھوڑ کر بخار آنا۔ ـــ غَبًّا و غِبًّا و غُبُوبًا الماشیة: چوپائے کا ایک دن پانی پینا اور ایک دن نہ پینا۔ صفت غَابَّة جمع غَوَابّ و غابّات: (ایک دن چھوڑ کر پانی پینے والا چوپایہ)۔ غَبَّبَ فی الامر: کام میں مبالغہ کرنا۔ ـ عنهم: لوگوں سے کوچ کرنا۔ اغبّ الماشیة: چوپائے کو ایک دن پانی پینے اور ایک دن نہ پینے کا عادی بنانا۔ ـ القوم: لوگوں کے پاس ایک دن آنا اور ایک دن نہ آنا۔ لوگوں سے ایک دن ناغہ کر کے ملنا۔ اسی سے ضرب المثل ہے: اَغِبُّوا فی عیادة المریض و اَرْبِعُوا: ایک دن چھوڑ کر بیمار کی عیادت کرو یا دو دن چھوڑ کر تیسرے دن عیادت کرو۔ ـــ تهُ الحُمّٰی واَغَبَّت علیه: کو تیسرے دن کا بخار چڑھنا۔ الغَبّ (مص): فی استعمال العامة: ایک ہی بار نگل کر پانی پینا۔ ایک گھونٹ میں سارا پانی پی جانا۔ حُمّٰی الغِب: تیسرے دن کی باری کا بخار۔ حُمّٰی غِبٌّ: (ترکیب توصیفی بھی) تیسرے دن کی باری کا بخار۔ الغَبّة: زندگی بسر کرنے کا ضروری سامان۔

۲۔ غَبَّ ـُ غَبًا و غِبًّا عنده: کے پاس رات گذارنا۔

۳۔ غَبَّ ـُ غَبًّا و غِبًّا و غُبُوبًا و غُبُوبَةً الطعام: کھانے کا باسی ہو جانا، سڑ جانا۔ غَبَّبَ الشیُٔ: چیز کا خراب ہو جانا۔ اغَبَّ عنده: کے پاس رات گزارنا۔ ـــ الطعام: کھانے کا سڑ جانا۔ الغابّ (فا) والغبیب: باسی گوشت۔ الغُبْبَة: صبح کا دودھ جو رات سے ہی دوہ لیا جائے پھر صبح کو بلو کر مکھن نکال لیا جائے۔

۴۔ غَبَّ ـُ غَبًّا و غِبًّا و غُبُوبًا و غَبُوبَةً الامورُ: کاموں کا اپنے انجام کو پہنچ جانا۔ الغِبّ (مص): جمع اغباب: انجام۔ کہا جاتا ہے۔ لـلامر غِبٌّ: اس کام کا ایک انجام ہے۔ بعد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ماءٌ غِبٌّ: پانی جو دور ہو۔ المَغَبَّة: انجام شئے کہا جاتا ہے۔ لـلامر مِغَبّ و مَغَبَّة: اس کام کا ایک آخری نتیجہ اور انجام ہے۔

۵۔ غَبَّ ـُ غَبًّا و غِبًّا الرایَ: سوچ سمجھ کر رائے قائم کرنا۔ اس سے ضرب المثل ہے: رُوَیْدَ الشِعْرَ یَغِبَّ: شعر غور و فکر کے بعد اور جلدی کئے بغیر پیش کرو۔ یغبّ جواب امر کے طور پر مجزوم ہے اور اس پر زبر دو ساکن حرف آنے کی وجہ سے ہے۔

۶۔ غَبَّبَ الذئبُ: بھیڑیے کا بکری کو حلق سے پکڑنا۔

۷۔ نجمٌ غاب: ساکن ستارہ۔ الغبّ جمع اغباب و غُبُوب و غُبّان: مد کے وقت سمندری پانی جو خشکی میں گھس گیا ہو۔ نرم زمین۔ الغَبَب جمع اغباب: مرغ اور گائے وغیرہ کے جبڑے کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت۔ الغبیب: پہاڑ یا زمین پر پانی بہنے کا تنگ اور چھوٹا نالہ۔ التَغِبَّة: جھوٹی گواہی۔

۷۔ الغُبْغَب جمع غَبَاغِب: مرغ اور گائے وغیرہ کے جبڑے کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت۔

○ غابانی: کشمیرا، ایک نرم اونی کپڑا۔ غار: دیکھو غور

غاز جمع غازات: گیس، پٹرولیم، تیل۔ الغازات السامة: زہریلی گیس۔ غازی: ... مِیاهٌ غازیة: معدنی پانی، سوڈا، غازوزة: سوڈا واٹر۔

غال جمع غالات: تالا، قفل۔ الغال: گال (ایک ملک کا نام) غالی: گال کا باشندہ جمع غالون۔ غانة و غانا: گھانا (ملک کا نام)

غَبَّ هُ / علی: کو بخار کا ایک دن چھوڑ کر چڑھنا۔ غِب: انجام، نتیجہ، اثر غِبَّ: کے بعد زاره غِبًّا: وقفہ وقفہ سے کسی کو ملنا۔ حُمّی الغِبّ: تیسرے دن کا باری کا بخار۔ غَبَب جمع اغباب: بیل وغیرہ کی گردن کے نیچے لٹکا ہوا ماس۔ گلتھا۔ چھپر۔ مَغَبَّة جمع مَغَبّات: انجام، نتیجہ، اثر۔ غَبَّ ـُ (=عَبَّ ـُ) ہ: کو ہڑپ کرنا۔ نگلنا، انڈیلنا، ایک ہی بار پی جانا۔ غُبَّة: ہڑپ کرنا۔ نگلنا، جتنا کچھ ایک ہی بار نگلا جائے۔ گھونٹ، جرعہ۔

غبث: غَبَثَ ـُ غَبْثًا الجبنَ بالسمن: پنیر کو گھی میں ملانا۔ اِغْبَثَّ: خاکی رنگ کا ہونا صفت اَغْبَث۔ الغُبْثه: مٹیالا پن۔

غبج: غَبِجَ ـَ غَبْجًا الماءَ: پانی کو لگاتار گھونٹ بھر کر پینا۔ الغُبْجَه: گھونٹ۔

غبر ۱۔ غَبَرَ ـُ غُبُورًا: گزر جانا ٹھہر جانا (ضد)۔ الغابر (فا): جمع غُبَّر و غابِرون: گزشتہ، باقی ماندہ۔ (ضد)۔ کہا جاتا ہے۔ هو غابِرُ بنی فلان: وہ فلاں خاندان کے بقایا میں سے ہے۔ غُبَّرُ الشیٔ: کسی چیز کے بقایا حصے۔ غُبَّرُ اللیل: رات کی پچھلی گھڑیاں۔ غُبَّرُ الناس: مرتبہ میں گھٹے ہوئے لوگ۔ الغُبْر جمع اَغْبار و الغُبَّر جمع غُبَّرات: کسی چیز کا بقیہ۔ غُبَّر المرض: بیماری کے رہ جانے والے اثرات۔ الغُبَر: بقایا جات۔ داهیة الغُبَر: نہ ٹلنے والی سخت مصیبت۔ الاغبر جمع غُبُر: جانے والا، کہا جاتا ہے: لایغرنك

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عِزُّ الدنیا فانه اَغبَر: دنیا کی عزت سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کیونکہ وہ فانی ہے۔ الغُبَیرَة جمع غُبَیرات (ن) پودے سے علیحدہ ہو جانے والا خلیہ، جو بعدازاں جنسی افزائش نسل کے بغیر پھوٹتا ہے۔

۲۔ غَبَرَ ـُ غُبُورًا خاکی رنگ کا ہونا۔ غَبِرَ ـَ غَبَرًا گرد آلود ہونا۔ غَبَّرَ غبار اٹھانا۔ الشیَٔ کو غبار آلود کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ غَبَّرَ فی وجه فلان: دوڑ میں کسی سے آگے نکل جانا۔ اَغْبَرَ: خاکی رنگ والا ہو جانا، غبار اٹھانا۔ ــ فی الامر: کام پر توجہ کرنا اور اس کو کرنے کی کوشش کرنا۔ ــ ت السماءُ: آسمان سے شدید بارش برسنا۔ اِغْبَرَّ غبار آلود ہونا۔ الیومُ: دن بھر شدید گرد و غبار رہنا۔ الغُبار: خاک یا خاک کے باریک ذرات۔ الغِبر: کینہ، دلی کدورت۔ الغَبَر: خاک۔ الغَبْرَة: غبار آلود ہونا۔ الغُبْرَة: غباری رنگ۔ ــ و الغَبَرَة: گرد و غبار الأَغْبَر جمع غُبْر: وہ جس کا رنگ خاکی ہو۔ (ح): بھیڑیا (خاکی رنگ ہونے کی وجہ سے)۔ سخت بھوک کی صفت بھی اغبر لاتے ہیں۔ کہا گیا ہے۔ الجوعُ الاَغْبَر والموتُ الأَحْمَر سخت بھوک اور قاتل موت۔ الغَبْراء: اَغْبَر کا مونث۔ ... مادہ چکور۔ زمین، کہا جاتا ہے۔ ما اظلّت الـ...ـراءُ ولا اقلت الغبراء مثل ...: آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر فلاں کی مثال نہیں۔ ...و غبراء و بنو الغبراء: فقراء، مفلس لوگ۔ سَنَةٌ غبراء: قحط کا سال، جس میں بارش نہ برسے۔ الغُبَیراء (ن) ایک درخت جس کی لکڑی عمدہ ہوتی ہے اور آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔ جوار کی شراب۔ المِغْبار من النخل وغیرها: گرد آلود درخت خرما وغیرہ

۳۔ غَبِرَ ـَ غَبَرًا الجرحُ: زخم کا خراب ہونے کے بعد بھر جانا اور پھر پھوٹ پڑنا۔ صفت غَبِر۔ الغِبر: ناسور۔ جُرحٌ غَبِرٌ: وہ زخم جو برابر پھوٹتا رہے۔

۴۔ غَبَّرَ الرجُلُ: تہلیل پڑھنا، پڑھتے ہوئے یا گاتے ہوئے لہردار آواز نکالنا۔ گنگری بھرنا۔ المُغَبِّرة: وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا نام بات بات پر پکارتے ہیں۔

○ غَبَرَ ـَ غُبُورًا: گزر جانا، ــ غَبِرَ: گزرا ہوا ہونا غَبَّرَ ہ/ ہ کو خاک آلود کرنا، مٹی سے ڈھکنا، کو گندہ کرنا، پر دھبا ڈالنا۔ غَبَّرَ: خاک اٹھانا، غبار اٹھانا۔ غَبَّرَ فی وجهه: سے آگے نکل جانا، سے برتر ہونا، پر فوقیت لیجانا، سے بازی لیجانا، سے بہتر کام کرنا۔ اَغْبَرَ بمعنی غَبَّرَ تَغَبَّرَ: خاک آلود ہونا، مٹی یا غبار سے اٹا ہوا ہونا۔ اِغْبَرَّ: خاکی رنگ کا ہونا۔ خاکستری رنگ کا ہونا۔ غَبِر دوبارہ پھوٹتا ہوا (زخم) غُبْرَة: خاکی رنگ غَبَرَة گرد و غبار، غبار: گرد و غبار جمع أَغْبِرَة: گرد و غبار، بادل، لاغبار علیه: صاف، شفاف، واضح، بین، صریح، ناقابل اعتراض، ناقابل تردید، بے قصور، بے گناہ، بے عیب، بے داغ، معصوم، معصوم عن الخطا، جس سے کوئی غلطی نہ ہوسکے، (اخلاقی طور پر)، ماشَقَّ غبارَہ: وہ اس کے معیار کو نہ پہنچا، وہ کبھی اس جیسی امتیازی حیثیت کو حاصل نہیں کرسکا۔ لایُشَقُّ غبارُہ یا لایُشَقُّ لَهُ غبارٌ: اس پر کوئی سبقت نہیں لیجاسکتا، وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، جَرىَ فی غبارہ: کسی کا وفاداری سے اتباع کرنا۔ اَغْبَر مونث غَبْراء جمع غُبْر: خاکی رنگ کا، خاک میں اٹا ہوا، غبار آلود۔ الاَغْبَر: زمین، میدان۔ الغَبْراء: زمین۔ اِغْبِرار علی: سے کینہ، بغض، کے خلاف برہمی (کا اظہار)۔ غابِر جمع غَوابِر: گزرا ہوا، ماضی، الازمان الغابرة یا القدیمُ الغابر: پرانے وقت، قدیم زمانہ۔

غبس: غَبَسَ ـُ غَبْسًا و اَغْبَسَ و اغْبَاسَّ اللیلُ: رات کا تاریک ہو جانا صفت اَغْبَس جمع غُبْس۔ اَغْبَسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ــ الشیُٔ: کسی چیز کا خاکستری رنگ ہو جانا۔ الغُبْسَة و الغَبَس: خاکستری رنگ، اول شب کی تاریکی۔

غبش: ۱۔ غَبِشَ ـَ غَبَشًا و اَغْبَشَ اللیلُ: آخر شب میں روشنی کا تاریکی میں مخلوط ہو جانا۔ الغَبَش جمع اَغْبَاش: رات کا باقی حصہ۔ آخر شب کی تاریکی۔ لیل غَبِشٌ: تاریک رات الغُبْشَة: رات کا باقی حصہ۔ لیل اَغْبَشُ جمع غُبْش: تاریک رات۔ لیلةٌ غَبْشَاءُ: ایک تاریک رات۔

۲۔ تَغَبَّشَ ہ کو دھوکا دینا۔ پر ظلم کرنا، کے خلاف جھوٹا دعوی دائر کرنا۔ الغابِش: ملاوٹ کرنے والا، دھوکے باز، ظالم۔

○ غَبَش جمع اَغْبَاش: تاریکی، دھندلاپن، سورج نکلنے سے قبل جھٹپٹا، رات کے آخری سائے، غَبِش: تاریک (رات)، غیر شفاف، مبہم، غُبْشَة: فجر کا جھٹپٹا۔ اَغْبَش م غَبْشاء جمع غُبْش: تاریک (رات) مبہم، غیر شفاف۔ غَبَاشَة: آنکھوں کی کمزوری۔ ضعف بصارت۔

غبص: غَبِصَ ـَ غَبَصًا العینُ: بہت رونے کی وجہ سے آنکھ سے ڈھیڈ یعنی کثافت زیادہ نکلنا۔ الغَبَص (مــص): بہنے والی ڈھیڈ۔ آنکھ سے بہنے والا کثیف پانی، کہا جاتا ہے۔ فی عینه غَبَصٌ: اس کی آنکھ میں ڈھیڈ ہے۔

غبط: ۱۔ غَبَطَ ـِ غَبْطًا الکبشَ: ہاتھ سے مینڈھے یا بکری کی کمر ٹٹولنا، جس سے اس کا موٹا یا دبلا ہونا معلوم ہو۔

۲۔ غَبَطَ ـِ و غَبِطَ ـَ غَبْطًا و غِبْطَةً ہ کا نظروں میں چڑھنا، دوسرے کی نعمت وغیرہ اپنے لئے بھی چاہنا مگر اس سے اس نعمت وغیرہ سے زوال کی خواہش نہ ہو یعنی کسی پر رشک کرنا۔ غابِط جمع غُبَّط: رشک کرنے والا مَغْبُوط: جس پر رشک کیا جائے۔ غَبَّطَ ہ: کسی کو رشک کرنے پر آمادہ کرنا، کسی کے فعل کو قابل رشک کرنے پر آمادہ کرنا، کسی کے فعل کو قابل رشک قرار دینا۔ اِغتَبَطَ و اُغتُبِطَ: شادمان اور خوش حال ہونا۔ الغِبْطَة: خوشحالی، شادمانی، رشک۔ عیسائی پوپ کا لقب۔

۳۔ اَغْبَطَ النباتُ: پودوں کا پاس پاس اگنا اور زمین کو ڈھک لینا۔ اَرْضٌ مُغْبَطَةٌ: گھنے پودوں والی زمین جسے ان پودوں نے ڈھک رکھا ہو۔

۴۔ اَغْبَطَ السحابُ: بارش مسلسل برسنا کہا جاتا ہے۔ اَغْبَطَ علینا المطرُ: ہم پر مسلسل بارش ہوئی۔ ــت الحُمّیَ علیه: کو لگاتار بخار کا چڑھا رہنا۔ سَمَاءٌ غَبْطَى: مسلسل برسنے والا بادل۔ الغَبِیط جمع غُبُط: کجاوہ جس پر ہودہ لگایا جائے۔ نرم زمین جس کے جانبیں بلند ہوں۔ پانی کا نالہ جو ٹیلوں کو کاٹ کر اپنا راستہ بنالے۔

۵۔ الغَبْطُ ـُ الغِبط جمع غُبُوط: کھیت کاٹتے وقت جتنی مقدار مٹھی میں آئے۔

○ غَبَطَ ـِ غَبْطًا ہ علی: پر کسی چیز کی وجہ سے رشک کرنا۔ غُبِطَ: (مجہول) خوش ہونا۔ غَبَّطَ ہ کو حاسد بنانا، کو خوش قسمت سمجھنا، کو خوش کہنا۔ اِغْتَبَطَ ب: پر، کے بارے میں خوش ہونا، شادمان ہونا۔ پر نازاں ہونا۔ پر مطمئن ہونا۔ سے خوش ہونا۔ غِبْطَة خوشی کی حالت، خوشی، مسرت، وجد، بے حد خوشی، پوپ کا لقب۔ صاحب الغِبْطَة: فضیلت مآب پوپ۔ کان محلَّ غِبْطَة: قابل رشک ہونا۔ مَغْبُوط قابل رشک، خوش، خوش قسمت، خوش نصیب، مبارک۔ (عیسائی) اولیاء کی مسلمہ فہرست میں شامل۔

غبق: غَبَقَ ـِ غَبْقًا ہ: کو شام کی شراب پلانا۔ ــ الغنمَ: بکری کو شام کے وقت پانی پلانا۔ یا اس کا دودھ نکالنا/ دوہنا۔ غَبَّقَ ہ: کو شام کی شراب پلانا۔ اِغْتَبَقَ: شام کی شراب پینا۔ ــ الخمرَ: شراب کو شام کے وقت پینا۔ و تَغَبَّقَ الناقةَ: اونٹنی کو شام کے وقت دوہنا۔ الغَبُوق: شام کو پی جانے والی شراب۔ اس کے مقابل صبح کو پی جانے والی شراب الصَّبُوح کہلاتی ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

شام کو دوہا جانے والا دودھ کہا جاتا ہے: لقیتُہ ذاصَبُوحٍ و ذاغَبُوقٍ: میں نے اس سے صبح اور شام کو ملاقات کی۔ ـــ والغَبُوقَة جمع غَبَائِق: شام کو دوہی جانے والی اونٹنی۔ الغَبْقَان جمع غَبَاقَی: شام کو شراب پینے والا۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ غَبْقَان و امرأةٌ غَبْقَی: شام کو شراب پینے والا مرد، شام کو شراب پینے والی عورت۔

غبن: ۱۔ غَبَنَ ـُ غَبْنًا الثوبَ: کپڑے کو موڑ کر سینا تا کہ تنگ یا چھوٹا ہو جائے۔ ـــ الطَعَامَ: غلہ کو سختی و قحط کے زمانہ کیلئے چھپا کر رکھنا۔ اِغْتَبَنَ الشیَٔ: کو بغل میں چھپا لینا۔ الغَبَن: کپڑے کے کنارے جو کاٹ کر پھینک دیئے جاتے ہیں۔ المَغْبِن جمع مَغَابِن: جسم کی ہرتہ، بغل، وادی کا بہت بڑا حصہ۔

۲۔ غَبَنَ ـُ غَبْنًا الرجُلَ کے پاس سے بغیر چھپے اس طرح گزرنا کہ اسے اس کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ غَبِنَ ـَ غَبْنًا و غَبَنًا الشیَٔ و فیہ۔ کو بھول جانا اور اس میں غلطی کر بیٹھنا ـــ غَبْنًا و غَبَانَةً رأیَہُ: ذہانت کا کم ہو جانا، ضعیف الرای ہو جانا۔ الغَابِن (فا): کام چور، عمل میں سستی کرنے والا الغُبْن و الغَبَن و الغَبَانَة: رائے کی کمزوری، بھول جانا۔ الغَبِین و المَغْبُون: ضعیف الرای

۳۔ غَبَنَ ـُ غَبْنًا و غَبَنًا ہ فی البیع او الشراء: کو خرید و فروخت میں دھوکا دینا، اپنا پلہ بھاری کر لینا۔ ـ فلانًا: کو دام بھاؤ میں نقصان پہنچانا۔ غابِن: دام و بھاؤ میں نقصان پہنچانے والا۔ مَغْبُون: جسے دام و بھاؤ میں نقصان پہنچایا گیا ہو۔ تَغَابَنَ القومُ: معاملات میں بعض کا بعض کو نقصان پہنچانا۔ الغَبْن (مص) والغَبَن: خرید و فروخت میں دھوکہ بازی۔ الغَبِینَة: دھوکہ۔ المُغَابَنَة: خرید و فروخت میں دھوکہ بازی۔

○ غَبَنَ ـِ غَبْنًا ہ فی: کو میں دھوکا دینا، چرکہ دینا، جل دینا، دھوکہ دیکر فائدہ اٹھانا، کو ٹھگنا، کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کو مرعوب کرنا۔ غَبْن و غُبْن جمع غُبُون: فراڈ، دھوکہ، فریب، دغا، ٹھگی، ٹھگ لینا، جل دینا، نقصان، ظلم، غَبْنٌ فاحِش: مجرمانہ فریب۔ غَبَن: حماقت، کند ذہنی۔ تَغَابُن: باہمی فریب دہی۔ یوم التغابن: یوم البعث، مغبون جسے دھوکا دیا گیا ہو، فریب دیا گیا ہو، جل دیا گیا ہو، ٹھگ لیا گیا ہو، فریب خوردہ، جس سے ظلم کیا گیا ہو، مظلوم، جسے نقصان پہنچایا گیا ہو۔ عاد اَوْرَجَعَ بصَفْقَةِ المغبون خالی ہاتھ واپس آنا۔ ہار جانا۔

عبا: عَبِیَ ـَ عَبًا و غَبَاوَةً الشیَٔ و عنہ کو نہ سمجھنا، سے ناواقف رہنا۔ الشیٔ علیہ: پر مخفی رہنا ـــ عنہ الخبزُ: سے جاہل ہونا، غافل ہونا۔ ـ منہ الشیٔ: سے مخفی ہونا۔ تَغَبَّی و اسْتَغْبَی ہُ: کو غبی سمجھنا یا پانا۔ تَغَابَی تَغَابِیًا عنہ و تَغَابَی ہُ: سے دانستہ غفلت برتنا۔ الغَبَاء: زمین کی پوشیدگی ـ من التُراب: اوپر اٹھا ہوا گرد و غبار۔ الغَبْوَة و الغُبْوَة: غفلت، الغَبَاوَة و الغُبِیُّ: جہالت، کم سمجھی، غفلت۔ الغَبِیُّ: جمع اَغْبِیَاء و اغباء: کم سمجھ، جاہل۔

○ غَبِیَ ـَ غَبَاوَةً ہ/عن کو پوری طرح نہ سمجھنا، کا ادراک نہ کرنا، سے ناواقف ہونا، کے بارے میں کوئی علم نہ رکھنا: ـــ علی کے لئے نامعلوم یا غیر معروف ہونا۔ اجنبی، غیر مانوس یا انجانا ہونا۔ تَغَابَی عن: سے بے خبر ہونا۔ غَبِی جمع اَغْبِیَاء: بے وقوف، غیر دانشمند، نامعاملہ فہم، جاہل، بے خبر، لاعلم، ناواقف احمق، کند ذہن، جاہل مطلق، غَبْوَةُ: پہیلی، معما، اغْبَی: زیادہ احمق، زیادہ سادہ لوح۔

غبی: ۱۔ غَبَّی تَغْبِیَةُ الشیَٔ: کو چھپانا۔ الغَبَاء و الغَبْیَة من التُراب: اوپر اٹھا ہوا گرد و غبار، کہا جاتا ہے: جاء علی غَبْیَةٍ من الشمس: وہ سورج چھپنے کے وقت آیا۔ الاَغْبَی من الاغصان م غَبْیَاء جمع غُبْیٌ: باہم گتھی ہوئی شاخیں۔ شَجَرَةٌ غبیاء: گنجان شاخوں والا درخت۔ المَغْبَاة جمع مَغَاب: درندوں کو شکار کرنے کے لئے کھودا جانے والا گڑھا۔

۲۔ غَبَّی تَغْبِیَةَ الشَعَرَ: بالوں کو کاٹنا یا مونڈنا۔

۳۔ اَغْبَی السحابُ: ہلکی بارش برسنا۔ الغَبْیَةُ: ہلکی بارش، یا بارش کا ایک تیز چھینٹا۔

غتَ: غَتَّ ـُ غتًا الشیَٔ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا۔ ـــ الضحك: اپنے منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ کر ہنسی کو چھپانا۔ ـــ الماءَ: پانی کو برتن منہ سے ہٹائے بغیر گھونٹ گھونٹ پینا۔ ـــ فلانا: کو صدمہ پہنچانا، کا گلا گھونٹنا ـ فلانا بالامر: کو معاملہ میں دقت اور غم میں ڈالنا۔ ـ ہُ بالکلام کو لاجواب کر دینا۔ ـ الطعام ار الکلامُ: کھانے یا بات کا بگڑ جانا غَتَّ او اَغَتَّ الطعامَ: کھانے کو بگاڑ دینا۔

○ غَتَّ ـُ غَتًّا ہ کو دبانا، کا ٹیٹوا دبانا، کا گلا گھونٹنا۔ ـ ہ فی کو میں ڈبو کر نکال لینا، کو غوطہ دینا، ڈبا دینا۔ غتّ الضحك ہنسی ضبط کرنا، ہونٹ کاٹنا۔

عتل عتِل ـ عتَلاً المکانُ جگہ کا بہت درختوں والا ہونا۔ ایسی جگہ کو عَتِل کہتے ہیں۔

اَغْتَم الزیارۃ اتنی کثرت سے ملنا کہ وہ تنگ آ جائے۔ الغَتْم دم گھونٹنے والی سخت گرمی۔ الغُتْمَة ...

میں غلطی کرنا۔ الاَغْتَم و الغَتَمِی: فصیح بات نہ کر سکنے والا کہا جاتا ہے۔ رجُلٌ اغتم وقُومٌ غُتْم واغتام و امراة غتماء: (فصیح بات کرنے سے قاصر مرد، لوگ، عورت)

غث: ۱۔ غَثَّ ـِ غَثَاثَةً و غُثُوثَةً ت الشاةُ: بکری کا دبلا ہو جانا۔ غَثَّة: دبلی بکری۔ ـــ اللحمُ: گوشت کا دبلا ہونا۔ اَغَثَّ: دبلا ہونا، لاغر ہونا۔ ـــ اللحمَ: دبلا گوشت خرید لینا۔ تَغَثَّثَ الشیَٔ: کو قلیل و کم مقدار سمجھنا۔ اغْتَثَّت الخیلُ: گھوڑوں کا موسم بہار میں سبز چارہ پانا۔ الغَثّ: لاغر، دبلا پتلا۔ الغَثِیث: لاغر، دبلا، پتلا،

۲۔ غَثَّ ـِ غَثَاثَةً و غُثُوثَةً حدیثُ القوم: کا کلام کا فاسد اور ردّی ہونا ـ ـِ غثًّا و غثیثًا الجرحُ: زخم سے پیپ بہنا ـــ علیہ المکانُ: کے لئے جگہ کا ناموافق ہونا کو جگہ راس نہ آنا۔ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ لایغث علیہ شیٔ: یعنی فلاں کے نزدیک کوئی چیز ردی قابل ترک نہیں۔ أغَثَّ فی الکلام: نکمی یا بیکار بات کرنا۔ اَغَث: فاسد ہونا۔ اِسْتَغَثَّ الجُرْحَ: زخم کا علاج کرنا اور اس میں سے پیپ نکالنا۔ الغثُّ من الکلام: نکمی یا بے خیر بات۔ غثیث الجرح: زخم کی پیپ اور فاسد مادہ۔ الغَثِیثَة: جس چیز میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ خرابی عقل۔ غثیثة الجرح: زخم میں موجود پیپ اور فاسد مادہ۔

○ غَثَّ ـِ غَثَاثَةً و غُثُوثَةً: لاغر ہونا یا ہو جانا، دبلا پتلا ہونا یا ہو جانا، ناکافی ہونا یا ہو جانا، غَثَّ ـِ غثًّا و غِثیثًا: (زخم میں) پیپ پڑ جانا، زخم کا خراب ہو جانا، ناسور بن جانا، پیپ نکالنا۔ غَثّ: لاغر، دبلا پتلا، ناکافی، بہت کم، غریب، ومفلس، مصیبت زدہ، بدنصیب، غثیث: لاغر، دبلا پتلا، پیپ، فاسد مادہ۔ غَثَاثَة: لاغری، دبلا پن۔

غثر: ۱۔ غَثَرَ ـُ غَثْرًا المکانُ بالنبات: جگہ کا سبزی سے لہلہانا، اِغْثَارَّ الثوبُ: کپڑے کا زیادہ رواں والا ہونا، صفت: اغثر۔ الغَثَر: کپڑے کا رواں۔ الغَثَرة: زرخیزی، فراوانی، بہتات الغُثْرَة: سبزی مائل سرخ رنگ۔ الأغْثَر م غَثْراء جمع غُثْر: سبزی مائل سرخ رنگ کا۔ اون کے زیادہ ریشوں والا کمبل۔ کائی، جاہل۔ (ح): شیر۔ بھیڑیا۔ الغَثْراء (ح): چرخ، لگڑ بگڑ، ارضٌ مَغْثِرَة: لہلہاتے کھیتوں والی زمین۔

۲۔ اَغْثَرَ الشجرُ: درخت سے گوند کی قسم کا سیال مادہ بہنا۔ المِغْثَر و المِغْثَار و المَغْثُور جمع مَغَاثِیر درختوں سے بہنے والی گوند جو شہد جیسی مگر بدبودار ہوتی ہے۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۳۔ الغُثْر والغُثَرة والغَثْراء والغَيْثَرة (اغثر کا واحد): پست طبقے کے لوگ۔

غثم: غَثَمَ ـُ غَثْمًا له کو مال کی اچھی خاصی قسط دینا۔ الغُثْمة: سیاہی مائل سفیدی الأَغْثَم: سیاہی مائل سفید۔ المَغْثُوم بلاوٹ دار۔

غثو: غثا ـُ غَثْوًا و غُثُوًّا و أَغْثَى الوادی: نالے میں کوڑے کرکٹ کی کثرت ہونا۔ ـــ السیلُ المَرْتَعَ: سیلاب کا چراگاہ اور سبزہ زار کی تر و تازگی ختم کر دینا۔ الغُثاء والغُثّاء: سیلاب کے پانی کے جھاگ میں کوڑا کرکٹ، اور درختوں کے گلے سڑے پتے جو سیلاب کی جھاگ میں رلے ملے ہوں۔

غثی: غَثِیَ ـــ غَثْیًا الکلامَ: بات میں جھوٹ سچ کی ملاوٹ کرنا۔ ـــ الوادی: نالے میں کوڑے کرکٹ کی کثرت ہونا۔ غَثْیًا و غَثَیانًا النفسُ: جی متلانا۔ ـــ ت السماء بالسحاب: گھٹا کا چھاجانا یا بادلوں کا آنا شروع ہوجانا۔ غَثِیَ ـَ غَثْیًا الکلامَ: بات میں جھوٹ سچ کی ملاوٹ کرنا۔ غَثَّی ت الارضُ بالنبات: زمین میں سبزہ کی بہتات ہونا۔ تغثَّی تِ النفس: جی کا متلانا۔

○ غَثی ـِ غَثْیًا ہ کو گڈمڈ کرنا، درہم برہم کرنا، خلط ملط کرنا، مخلوط کرنا، میں تحریف کرنا۔ غثت نفسُہ غَثْیًا و غَثَیانًا و غَیْثُ نفسہ جی متلانا، طبیعت کا ناساز ہونا، بیمار محسوس کرنا۔ غَثْـی متلی، مالش، کراہت، گھن، قے، متلی، ناسازی طبع، علالت، غَثَیان متلی، مالش، کراہت گھن، ناسازی طبع [illegible]۔ غثاء جھاگ، گندگی، تلچھٹ۔

غدّ: ا۔ غَدَّ ـَ غَدًّا و غُدَّ غدود کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ ـــ البعیرُ اونٹ کا طاعون شتری میں مبتلا ہونا۔ غُدِّدَ: غدود کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ أَغَدَّ بمعنی غُدِّدَ۔ مُغِدّ غدود کی بیماری میں مبتلا ـــ علیہ پر غصہ میں بھر جانا۔ أُغِدَّ غدود کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ مُغِدّ غدود کی بیماری میں مبتلا۔ الغُدَد جمع غِداد: اونٹوں کا طاعون۔ الغُدَّة جمع غُدَد و غدائد: غدود ـــ الغدد جمع غدود غدائد اونٹوں کا طاعون، گلٹی المِغْداد: غصیارا، بہت غصہ ہونے والا۔ (مذکر و مؤنث دونوں کیلئے)۔

۲۔ غَدَّ نصیبَة اپنا حصہ لے لینا۔ الغُدُّ جمع غَدائد: مال کا ایک ٹکڑا، سودا۔

○ غُدّة جمع غُدَد: غدود (Gland) الغُدّة الدَّرَقِیّة: سپری غدود، سپر نما غدود Thyroid gland۔ غُدّة صمّاء: غیر مسام دار غدود۔ endocrine or ductless gland۔ الغُدّة الصنوبریة: صنوبری غدود Pineal gland غُدَدِی: غدودوں کا، غدودی Glandular۔

غدر: ا۔ غَدَرَ ـِ و غَدِرَ ـَ غَدْرًا و غَدَرانًا الرجُلَ وبہ: سے خیانت کرنا، کے ساتھ بدعہدی کرنا۔ الغادِر (فا) جمع غادِرُون و غَدَرَة و غُدّار م غادِرة جمع غادِرات و غَوادر: خائن، خیانت کرنے والا، بدعہد الغَدَر و الغُدْرة و الغَدّار و الغَدُور و الغِدّیر: بڑا دھوکے باز، خائن اور بدعہد، کہا جاتا ہے۔ رجُلٌ غَدُور جمع غُدُر وامرأة غدور: غدار مرد، غدار عورت، رجلٌ غَدّار و امرأة غَدّارِ و غَدّارة: غدار مرد، غدار عورت، گالی کے طور پر مرد کو "یا غُدَرُ" بمعنی یا غادر جمع یا آلَ غُدَرَ: عورت کیلئے: یا غَدارِ۔ کہتے ہیں الغَدّارة جمع غَدّارات (اع): پستول (Pistol)

۲۔ غَدِرَ ـَ غَدَرًا الرجُلُ: تالاب کا پانی پینا۔ ـــ عن اصحابہ: ساتھیوں سے بچھڑ جانا، پیچھے رہ جانا۔ غادَرَ غِدارًا و مُغادَرَةً ہ: کو چھوڑ دینا، باقی رہنے دینا۔ اَغْدَرَہ: کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جانا، باقی رہنے دینا۔ تَغَدَّرَ: ساتھ چھوڑ دینا۔ پیچھے رہ جانا۔ اِغْتَدَرَ الرجُلُ: تالاب بنانا۔ اِسْتَغْدَرَ المکانُ: جگہ کا تالابوں والا ہوجانا۔ الغَدَر: نہر کا پانی خشک ہو جانے پر رہ جانے والی کیچڑ۔ ـــ والغَدَرة والغُدْرة والغُدارة: کسی چیز کا باقی ماندہ حصہ۔ الغَدِیر جمع غُدُر و غُدْر و غُدْران و اَغْدِرة: نہر، سیلاب اتر جانے کے بعد گڑھوں میں رہ جانے والا پانی۔ گھاس اور پودوں کا قطعہ۔ الغَدِیرة جمع غُدْران: پودوں کا قطعہ۔

۳۔ غَدِرَ ـَ غَدَرًا المکانُ: کسی جگہ کیچڑ زیادہ ہوجانا یا پتھروں کا معہ درختوں کے زیادہ ہونا۔ اَغْدَرَہٗ: کو تالاب میں گرا دینا۔ الغَدَر (مص): سخت اور پتھریلی جگہ۔ پتھر جن کے ساتھ درخت ہوں۔

۴۔ غَدِرَ ـَ غَدَرًا اللیلُ: رات کا تاریک ہوجانا اَغْدَرَ اللیلُ: رات کا تاریک ہوجانا۔ الغَدْراء: تاریکی لیلةٌ غَدْراء و غَدِرة و مُغْدِرة: تاریک رات۔

۵۔ الغَدِیرة جمع غدائر: عورتوں کے بالوں کی گندھی ہوئی چوٹی۔

○ غَدَرَ ـُ غَدْرًا ہٗ/ ب/ فی: سے بیوفائی کرنا، غداری کرنا، دغابازی کرنا۔ ـــ ہ/ب: کے ساتھ دورخی سے کام لینا، کو دھوکا دینا، کو دغا دینا، سے غداری کرنا، کو بہکانا، سبز باغ دکھلانا، غَدْر بیوفائی، غداری، بدعہدی، دغا، دھوکا، بغاوت، دغا۔ غَدِیر جمع غُدُر و غُدْران: تالاب، جوہڑ، قدرتی تالاب، سڑک وغیرہ پر بارش کے گدلے پانی کا گڑھا۔ دریا، ندی، نالہ، آبجو، کھاڑی، دریا کی شاخ۔ غَدّار: بیوفا، دغاباز، غدار، جھوٹا، بے ایمان، فریبی، مکار۔ غَدّارة جمع غَدّارات۔ پستول غَدّارة سریعة الطلق: سب مشین گن۔ ٹومیگن (Tommy gun) غادر بمعنی غَدّار۔

غدف: ا۔ غَدَفَ ـُ غَدْفًا و غَدَّفَ لہ فی العطاء: کو بہت عطا کرنا۔ اِغْتَدَفَ منہ: سے کوئی چیز بڑی مقدار میں لے لینا۔ ـــ الثوبَ: کپڑا تراشنا۔ الغَدَف: نعمت، فراوانی، زرخیزی، بہتات، کہا جاتا ہے: ھم فی غَدَفٍ: وہ خوش حال ہیں۔

۲۔ اَغْدَفَ اللیلُ: رات کی تاریکی چھاجانا۔ و ـــ البحرُ: سمندر کا مواج ہونا۔ ـــ الشبکةَ علی الصید: شکار کے لئے جال بچھانا۔ ـــ المرأة قناعَھا علی وجھھا: عورت کا چہرے پر نقاب ڈال لینا۔ اِغْدَوْدَفَ اللیلُ: رات کا آجانا اور تاریکی چھاجانا۔ الغادِف: ملاح۔ الغادُوف: چپو۔ کشتی چلانے کی لکڑیاں الغُداف جمع غِدفان: سیاہ اور لمبے بال، پرندہ کا سیاہ بازو۔ (ح): پہاڑی کوا۔ (ح): گدھ کی طرح کا ایک پرندہ۔ الغُدافِی: سیاہ بالوں کے رنگ کا، سیاہ بالوں والا کہا جاتا ہے۔ لیلةٌ غُدافیةُ الإھاب: تاریک رات۔ المِغْدَف: چپو۔

۳۔ الغِدَفْل جمع غَدافِل: لمبا تڑنگا۔ بڑے ڈیل ڈول کا اونٹ۔ بوسیدہ کپڑا۔

○ غُدْفة جمع غُدَف: عورتوں کا سر کا رومال۔

غدق: غَدِقَ ـَ غَدَقًا المکانُ: جگہ کا بارش سے تر ہو جانا، سر سبز ہوجانا۔ غَدِق: سرسبز جگہ۔ غَدِقَ ـَ غَدَقًا و اِغْدَوْدَقَ المطرُ: بارش کا خوب برسنا۔ ـــ ت عینُ الماء: پانی کے چشمے کا گہرا اور شیریں ہونا۔ غَدِقَة: شیریں چشمہ۔ اَغْدَقَ المطرُ: بارش کا خوب برسنا۔ ـــ العیشُ: معیشت کا فراخ ہونا ـــ ت الارض: زمین کا سرسبز ہونا۔ الغَدَق (مص): بہت پانی۔

○ غَدِقَ ـَ غَدَقًا: (بارش کا) شدید ہونا، زوروں سے پڑنا، برسنا، کثرت سے ہونا۔ اَغْدَقَ بمعنی غَدِقَ نیز اَغْدَقَ علی: کو سخاوت سے عطا کرنا۔ ـــ علی ہ: پر کی بوچھاڑ کرنا، بھرمار کرنا، کو فراخدلانہ (کچھ) دینا، عطا کرنا، پر کچھ نثار کرنا۔ غَدِق: (بارش پانی) وافر، فراوان کثیر، بہت۔ مُغْدِق: بمعنی غدِق

غدن: تَغَدَّنَ الغصنُ: ٹہنیوں کا جھومنا۔ اغدودن

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الرجلُ: پاؤں کا ڈھیلا پڑنا، گر پڑنا ـــ النبتُ: پودوں کا ہرا بھرا ہونا اور آبپاشی کی زیادتی کی وجہ سے سیاہی مائل ہونے لگنا۔ ـــ الشعرُ: بالوں کا لمبا اور گھنا ہونا۔ غَدوَدَن: لمبے اور گھنے بالوں والا۔ الغَدَن: نیند، اونگھ، ڈھیلا پن، ضعف۔ والغُدنۃ: نرمی، نعمت۔ الغُدانِی: نازک بدن، جوان۔ غُدانِیُّ الشباب: تر وتازہ جوان۔ المُغدَودِن: نازک بدن جوان۔

۲۔ الغِدان: وہ شاخ جس پر کپڑے لٹکائے جاتے ہیں۔

○ اِغدَودَنَ: بالوں کا لمبا اور بے افراط ہونا۔ غَدَن: غنودگی، ماندگی، تھکاوٹ، تھکن، ڈھیلا پن، لنگڑا پن۔ غُدنۃ: بمعنی غَدَن۔ غِدان: کپڑے ٹانگنے کی کھونٹی مُغدَودِن: گھنے اور لمبے (بال)۔

غدو: غَدَا ـُ غُدُوًّا: صبح کو جانا۔ (مطلقا) جانا۔ صَارَ کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ ـــ غُدُوًّا و غُدوَۃً و اغتَدَی علیہ: کے پاس صبح سویرے پہنچنا۔ غَدِیَ ـــَ غَدًا و تَغَدَّی: ناشتہ کرنا کہا جاتا ہے: ھل لك ان تتغدی بہ قبل اَن تتعشّی بنا: یعنی کیا یہ ہوسکتا ہے کہ تم ہمیں ہلاک کرنے سے پہلے اسے ہلاک کرو۔ غَدَّی الرجلَ: کو صبح کا کھانا کھلانا، کو ناشتہ کرانا۔ غَادَی مُغَادَاۃً الرجلَ: کسی شخص کے پاس سویرے پہنچنا۔ الغادِی (فا)۔ شیر الغادیۃ جمع غَوادٍ و غَادِیات: غادی کا مونث۔ صبح کے وقت آنے والا بادل، صبح کی بارش۔ الغَدُ (نسبت غَدِی و غَدَوِی): کل (آئندہ)، دن جو دور ہو مگر اس کا انتظار ہو۔ الغَدَاءُ جمع اَغدِیَۃ: ناشتا (اس کا مقابل العشاء ہے)۔ مولّدون: اسے دوپہر کے کھانے کے معنی میں لیتے ہیں۔ الغُدوَۃ جمع غُدًی و غُدُوّ و الغداۃ جمع غدَوات و الغدِیَّۃ جمع غَدَایَا و غَدِیَّات: وقت صبح، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت۔ دن کے شروع کا حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ ھو ابنُ غَدَاتَین: وہ دو دن کا (بچہ) ہے۔ الغَدیَان م غَدیا: صبح کا کھانا کھانے والا۔ الغُدَیَّۃ: الغداۃ کی تصغیر۔ المَغدَی و المَغدَاۃ: صبح کے وقت جانے کی جگہ، کہا جاتا ہے: ماترك من ابیہ مَغدًی ولا مراحًا و مَغدَاۃً ولا مَراحۃً: اس نے اپنے والد سے مشابہت کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔

غدا ـــُ غُدُوًّا و غُدوَۃً: جانا، صبح سویرے جانا، روانہ ہونا، آنا، کرنا یا ہونا؛ بھاگنا ـــ ھ: کچھ ہو جانا۔ کچھ بن جانا، میں تبدیل ہو جانا، غَدَا و رَاحَ: آنا جانا، آگے پیچھے یا ادھر ادھر جانا یا ٹہلنا۔ غَدِیَ ـَ غَدًا ناشتہ کرنا، صبح کا کھانا تناول کرنا۔ غَدَّی ہ: کو ناشتہ کرانا، صبح کا کھانا کھلانا، کو ظہرانہ دینا، دوپہر کا کھانا دینا۔ غَادَہ: کے پاس صبح سویرے جانا، یراوحھا و یغادیھا: وہ اکثر یا بار بار اس خاتون کی ملاقات کو جاتا رہتا ہے۔ تغدّی: ناشتہ کرنا۔ ظہرانہ تناول کرنا، صبح کا کھانا کھانا، دوپہر کا کھانا کھانا۔ غد: اگلی صبح، اگلا دن غَدًا: کل (آئندہ) آئندہ (کسی دن) مستقبل میں کسی وقت فی غدٍ، من غدٍ: اگلے دن، کل (آئندہ) فی الغد: کل (آئندہ)، آئندہ کسی دن بعد غدٍ: پرسوں (آئندہ) فی ذاتِ غدٍ: آئندہ کسی دن۔ غداء جمع اغدیۃ: ناشتہ، ظہرانہ، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا۔ غداۃ جمع غدَوات: صبح سویرے، علی الصبح الغداۃ: آج صبح غُدوۃ جمع غُدًی: صبح سویرے۔ غَدوۃ جمع غدَوات: ظہرانہ، دوپہر کا کھانا، صبح کے وقت سندیسے کا سفر۔ غدواتہ وروَاحاتہ: اس کا آنا جانا مَغدًی: وہ جگہ جہاں کوئی صبح کو جائے۔ مَغدًی و مَراح: وہ جگہ جہاں اکثر آنا جانا رہتا ہو۔ مقصد جس کی آرزو اور تمنا کی جائے۔

غذ: غَذَّ ـُ غذًّی الشیءَ: کو ناقص کر دینا۔ ـــ الجرحُ: زخم سے پیپ، خون اور پانی وغیرہ کا بہہ پڑنا۔ اَغَذَّ اِغذَاذًا السیرَ و فی السیر: تیز چلنا۔ ـــ الجرحُ: زخم سے پیپ اور فاسد مادہ نکل پڑنا۔ اَغَذَّ اِغذاذًا السیرَ او فی السیر: چلنے میں جلدی کرنا۔ الجرحُ: زخم سے خون پیپ جاری ہونا۔ الغاذ (فا): آنکھ کی رگ جو ہمیشہ جاری رہتی ہے، حس۔ الغَذِیذۃ: زخم کا فاسد مادہ پیپ کچھ لہو اور پانی۔

○ غَذَّ ـِ غَذًّا و اَغَذَّ: زخم خراب ہو جانا زخم میں پیپ پڑ جانا، زخم کا ناسور بن جانا، زخم کا پکنا۔ اَغَذَّ: جلدی کرنا، تیز چلنا۔ اَغَذَّ فی السیر: تیز دوڑنا، جلدی کرنا، تیز چلنا۔

غذم: غَذَمَ ـــِ و غَذِمَ ـَ غَذمًا و اغتذم الشیءَ: کو بڑی بے صبری سے کھانا۔ اِغذَمَ الفصیلُ مافی ضرعِ اُمِّـہ: بچھڑے کا ماں کے تھنوں سے سارا دودھ پی جانا۔ تَغَذَّمَ الشیءَ: کو بڑی بے صبری سے کھانا۔ ـــ الفصیل مافی ضرع امہ: بچھڑے کا ماں کے تھنوں سے سارا دودھ پی جانا۔ الغَذَم: بہت کھانے والا، پیٹو، جو ملے کھا جائے۔ الغُذمۃ و الغَذَمۃ جمع غُذَم: دودھ کی کثیر مقدار بئرٌ غَذِیمۃٌ: بڑا کنواں۔ المُتَغَذِّم: بہت کھانے والا، پیٹو، جو ملے کھا جائے۔

۲۔ غَذَمَ ـُ غَذمًا لہ من المال: کو مال کی خاصی مقدار دینا۔ الغُذمۃ جمع غُذَم: مال کا ایک حصہ

۳۔ غَذمَرَ غَذمَرۃً [illegible]

المجلس: مجلس میں غصہ سے چیخنا۔ الغَذمَرۃ (مص) جمع غَذَامِیر: شور وغل، چیخ و پکار، ڈانٹ ڈپٹ۔

۴۔ غَذمَرَ غَذمَرَۃً الشیءَ: کو متفرق کر دینا، کو باہم ملا دینا، خلط ملط کر دینا، اندازہ سے فروخت کر دینا۔

غذو: ۱۔ غَذَا ـُ غَذوًا الرجلَ بالطعام: کو کھانا دینا۔ ـــ الطعامُ الصبیَّ: کھانے کا بچے کو سیر کر دینا۔ غَذَّی تَغذِیَۃً الرجلَ: کو خوراک دینا، کی پرورش کرنا۔ تَغَذَّی تَغَذِّیًا و اِغتَذَی اِغتِذَاءً: غَذَّی اور غَذَا کا فعل مطاوع یعنی کھانا دیا جانا، پرورش پانا۔ الغِذَاء جمع اَغذِیَۃ: وہ کھانے پینے کی چیز جس سے بدن کی پرورش ہو۔ الغاذِی جمع غُذَاۃ و غَاذُون م غَاذِیہ جمع غَوَاذٍ (فا)، غاذی المال: مال کا انتظام و اصلاح کرنے والا۔ الاَغذی: زیادہ کھانے اور کھلانے والا۔ الغَذِیّ جمع غِذاء: چھوٹے مویشی ـــ و الغَذَوِی: حاملہ جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہو یا صرف بکریوں کے پیٹ میں جو کچھ ہو۔

۲۔ غذا ـُ غَذوًا الرجلُ: تیز چلنا۔ الفرسُ: گھوڑے کا تیزی سے گزرنا۔ اِستَغذَی اِستِغذاءً الرجلَ: کو شدت سے زمین پر گرا دینا، پچھاڑ دینا۔ الغَذَوان: سخت توانا اور تیز رفتار گھوڑا۔

۳۔ غَذَا ـــُ غَذوًا العرقُ: رگ سے خون بہہ پڑنا۔ غَذَّی تَغذِیَۃً العرقُ: رگ سے خون بہہ پڑنا۔

۴۔ الغَذَوان: سخت زبان دراز۔

○ غذا ـُ غَذوًا ہ ب: کو کچھ کھلانا، کو کچھ بطور غذا پہنچانا، کی سے تربیت کرنا، غَذَّی ہ ب: کو کچھ کھلانا، کو کچھ بطور غذا دینا، کی سے تربیت کرنا ـــ ہ ـــ ب: کو کچھ فراہم کرنا، مہیا کرنا، کو سے زندہ رکھنا ـــ ب: کو پھر سے بھرنا، میں ٹھونسنا۔ تغذی ب: چکھانا، بطور غذا کچھ حاصل کرنا ـــ سے تربیت پانا، پر یا کے سہارے، زندگی بسر کرنا یا زندگی گزارنا۔ کو کھا کر بسر کرنا ـــ سے بھر جانا سے آراستہ ہونا۔ (برقی قوت وغیرہ) سے غذا حاصل کرنا۔ اِغتَذَی: غذا حاصل کرنا، تربیت پانا۔ غَذو غذاء پہنچانا غذائیت۔ تربیت، غِذاء؛ تغذیہ؛ غِذاء جمع اَغذِیَۃ: خوراک، تربیت، اولاد۔ غذائیت والی خوراک۔ تغذیہ۔ اَغذِیَۃ: اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی اشیاء، خوراک، غِذائی غذائی، غذائیت والی، مواد غِذائِیۃ: اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی چیزیں، خوراک تغذیۃ: تغذیہ: خوراک، غذا، غذائیت، بیٹری چارجنگ۔

غرّ: غَرَّ ـُ غَرًّا و غِرَّۃً و غُرُورًا ہ: کو دھوکا دینا، باطل کی رغبت دلانا۔ ماغرّك بفلان: تو نے اس کے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خلاف کیسے جرأت کی۔ غـرًّا و غـاراً: غافل ہوجانا، لاپرواہ ہوجانا۔ ـــــ غَرًّا و غَرَارَةً: تجربہ کار یا عاقل ہونے کے بعد بچوں کا سارویہ اختیار کرنا۔ غَرِرَ ـــــ غَرَارَةً: غافل ہوجانا، بے پرواہ ہوجانا۔ غَرَّرَ تَغْرِيرًا و تَغِرَّةً بالشيء: کے لئے تباہی کا سامان کرنا، کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اِغْتَرَّهُ: کی غفلت کا طالب ہونا، کے پاس اس کی بے خبری میں آجانا۔ بکذا: سے دھوکا کھانا۔ اِسْتَغَرَّ بكذا: سے دھوکا کھانا۔ ـہٗ: کی غفلت اور بے خبری میں اس کے پاس پہنچ جانا۔ الغارّ (فا) م غَارَّةَ: غافل الـغَرَّار: بہت دھوکا دینے والا (فک): صبح کا ستارہ۔ الـغَرَارَة: غفلت، نوعمری، کان ذلك علی غرارتي: یہ میری نوعمری میں ہوا۔ الـغِرّ ج اَغْرَار: ناتجربہ کار جوان۔ مؤنث: غِرّ و غِرَّہ۔ الـغِرَّة (مص) جمع غِرَر: غفلت، ناتجربہ کاروں کا گروہ، الـغَرَر: ہلاکت کے درپے۔ کہا جاتا ہے۔ انا غَرَرٌ منك: میں تمہارے بہلاوے میں آیا ہوا ہوں۔ الغَرُور: دھوکے کا ذریعہ۔ دنیا اور دنیا کی صفت بن کر بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں۔ الدنيا الغَرُور: دنیا دھوکے کا ذریعہ ہے۔ الـغُرُور (مص): بیہودہ باتیں۔ الـغَرِير جمع اَغِرَّة و اَغِرَّاءُ م غَرِيرَة جمع غرِيرَات و غَرائِر: فریب خوردہ۔ ناتجربہ کار جوان الـمَغْرُور (مفع): باطل کے سبز باغ دکھایا ہوا۔ خود بین، فریب خوردہ دولت علم حسن وغیرہ پر گھمنڈ کرنے والا۔

۲۔ غَرَّ ـُ غَرًّا و غِرارًا و ـ ـ غَرَارَةً: عزت و شرف والا ہوجانا۔ الغُرَّة من القوم جمع غُرَر: قوم کا عزت و شرف والا شخص۔ الأَغَرّ م غَرَّاء جمع غُرّ و غُرّان: اچھے افعال والا۔ سردار، شریف۔

۳۔ غَرَّ ـَ غَرَرًا و غُرَّةً و غَرَارَةً الوجهُ: چہرے کا حسین اور روشن ہوجانا۔ ـ الشيُّ: سفید ہوجانا۔ غَرَّر تغريرًا و تـغِرَّةً ت ثنيةُ الغلام: بچہ کا دانت اول اول نکلنا۔ تَغَرَّرَ الفرسُ: سفید پیشانی والا ہونا۔ الغُرَر: مہینہ کی پہلی تین راتیں۔ الـغُرَّة جمع غُرَر: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ ـ من کل شيئ: ہر چیز کا ابتدائی اور بڑا حصہ۔ ـ من الرجل: چہرہ۔ روشنی یا صبح جو نظر آئے۔ الـغَرِيرِ جمع غُرَّان: اچھی عادت (کہا جاتا ہے: ادبر غريرُه واقبل هزيرُه: کی اچھی عادت جاتی رہی اور بری عادت آگئی۔) عمدہ زندگی الاغَرّ م غَرَّاء جمع غُرّ و غُرَّان: خوبصورت ہر سفید چیز۔ من الخیل: سفید پیشانی والا گھوڑا۔ ـ من الایام: سخت گرم دن۔

۴۔ غَرَّ ـُ غَرًّا و غِرارًا الماءُ پانی کا جذب ہوجانا۔

غِرارًا و مُغَارَّةً السوقُ: کساد بازاری ہوجانا۔ ـ التحيّة: سلام کم کرنا۔ ـــ ت الناقةُ: اونٹنی کا دودھ کم ہوجانا۔ الـغِرار جمع اَغِرَّة: کساد بازاری، اونٹنی کے دودھ کی کمی۔ تھوڑی سی نیند یا کوئی اور تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے: أتانا علی غِرارٍ: وہ ہمارے پاس جلدی میں آیا۔ الـمُغَارّ جمع مَغَارّ: تھوڑے دودھ والی اونٹنی۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُغَارُّ الكفّ: فلاں شخص بخیل ہے۔

۵۔ غَرَّ ـُ غَرًّا و غِرارًا الطائرُ فرخَهُ: پرندہ کا اپنے بچے کو چوگا دینا۔ ـــ الراعي: چرواہے کا اپنے اونٹ چرانا۔

۶۔ غَرَّ ـُ غَرًّا و غِرارًا الرجُلُ: جنگلی مرغی کھانا۔

۷۔ غَرَّ ـُ غَرًّا و غِرَّةً و غُرُورًا الماءَ: پانی ڈالنا۔ غَرَّرَ تغريرًا و تَغِرَّةً القربةَ: مشک بھرنا۔ الغِرَارَة جمع غَرائِر: بورا، تھیلا۔

۸۔ غَرَّرَ تَغْرِيرًا و تَغِرَّةً الطائرُ: پرندہ کا اڑنے کے لئے پر تولنا۔

۹۔ الغَارّ م غارَّة: کنواں کھودنے والا۔ الغَرّ جمع غُرُور: زمین کا شگاف، کپڑے یا کھال کی شکن (کہا جاتا ہے: طويتُ الثوبَ علی غرّہ: میں نے کپڑے کو پہلی شکن پر تہہ کر دیا۔) زمین میں پتلی سی نہر۔ تلوار کی دھار۔ الغِرار: تلوار کی دھار: تیر بنانے کا نمونہ۔ کہتے ہیں۔ هم علی غِرارٍ واحد: وہ ایک ہی طرز و نمونہ کے ہیں۔ ولَدَتْ ثلاثة بنين علی غِرار: عورت نے پے در پے تین بچے جنے۔ لبث القوم غرارَ شهر: لوگ ایک ماہ ٹھہرے الـغُرَّة جمع غُرَر: غلام، لونڈی (ح): ایک آبی پرندہ جو نرسل سے ڈھکی ہوئی دلدلوں میں رہتا ہے۔ الـغُرّان: پانی کے بلبلے کہا جاتا ہے: اقبل الماءُ بغُرّانه: پانی اپنے بلبلوں کے ساتھ آیا۔ الغَرُور: غرغرہ کرنے کی دوائیاں الـغَرِير ج أَغِرَّة وَاَغِرَّاء م غَرِيرَة جمع غريرات و غَرائِر: کفیل۔ الغُرَير (ح): کتے سے چھوٹا بلی سے بڑا بھورے رنگ کا ایک جانور۔ عرب کہتے ہیں: اسمن من غُرَير: اس کو یغرا اور غُرغور بھی کہتے ہیں۔

۱۰۔ غَرْغَرَ غَرْغَرَةً: غرغرہ کرنا۔ ـ ت القِدر: ہانڈی کا جوش کے وقت آواز نکالنا۔ ـــ ہٗ: کو ذبح کرنا۔ ـــ ہٗ بالرمح: کے حلق میں نیزہ مارنا۔ ـــ الرجُلُ: گلوگیر آواز نکالنا۔ موت کے وقت غرغر کی آواز نکالنا۔ اللحمُ: بھونتے وقت گوشت سے آواز نکلنا۔ تَغَرْغَرَ بالماء او الدواء: پانی یا دوا سے غرغرہ کرنا۔ تغرغرت العينُ بالدمع: آنکھ میں آنسو کا ڈبڈبانا۔

۱۱۔ الغِرغِر جمع غِرغِرة (ح): جنگلی مرغی۔ الـغُرغُرَة: پرندے کا پوٹا۔ پیشانی کی سفیدی۔ فلانٌ غُرغُرَةٌ: فلاں شخص شریف ہے۔ الـغُرغُور (ح): دیکھو غُرَير۔

○ غَرَّ ـُ غُرُورًا ب: کو گمراہ کرنا، دھوکا دینا، سے دھوکے سے کام کرانا، ـــ ہ: کو دھوکا دینا، سے دھوکے سے کام کرانا، کو بہکانا، کو سبز باغ دکھانا، کو فریب دینا، جل دینا، کو خیرہ کرنا، اندھا کرنا۔ غَرَّرَ ب: کو دھوکا دینا، بہکانا، خیرہ کرنا، اندھا کرنا، کو للچانا، سبز باغ دکھانا، موہ لینا، لبھانا، اکسانا، ترغیب دینا، گمراہ کرنا، ورغلانا، پھسلانا، کو خطرہ میں ڈالنا، غَرَّرَ بنفسه: اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالنا، اپنی زندگی کو خطرہ میں ڈالنا۔ اِغْتَرَّ ب: سے چندھیا جانا، اندھا ہوجانا، بیوقوف بن جانا، بہک جانا، گمراہ ہو جانا، سے دھوکا کھانا، میں یا کے بارے میں غلطی کرنا۔ اِغْتَرَّ: مغرور ہونا، متکبر ہونا، خود پسند ہونا یا ہوجانا۔ اِسْتَغَرَّہٗ: کے پاس غیر متوقع طور پر آنا، کو اچانک جالینا یا کے پاس اچانک پہنچ جانا، کو حیران کر دینا۔ بھونچکا کر دینا۔ غَرّ: تلوار کی (کاٹ دار) دھار۔ غِرّ جمع اَغْرار: ناتجربہ کار، سادہ لوح، دھوکا کھا جانے والا، نیا، سبز، ہرا، کچا، اناڑی، فریب خوردہ، غافل، بے پرواہ، توجہ نہ کرنے والا، غُرَّة جمع غُرَر: گھوڑے کے چہرے پر سفید داغ، بہترین، عمدہ ترین، اول نمبر (کسی چیز کا) روشن ترین حصہ یا پہلو۔ غُرَّة الشهر: مہینے کا پہلا دن فی غُرَّةِ العام: سال کے شروع میں۔ غِرَّة: بے پرواہی، غفلت، عدم توجہ، بے توجہی کا لمحہ، نادانستگی، بے پروائی کا لمحہ۔ علی غِرَّةٍ یا علی حينِ غِرَّةٍ: غیر متوقع طور پر۔ اچانک، نادانستہ، حیرت انگیز طور پر، عجیب طور پر، اُخِذَ علی: (حين) غِرَّةٍ: بے خبری میں گرفت میں آجانا۔ اچانک جالیا ہونا، حیران کیا گیا ہونا، بھونچکا ہوجانا، غَرَر: خطرہ۔ غُرُور: دھوکا، فریب، دغابازی، فریب خوردگی، پاکھنڈ، ڈھکوسلا، داؤں مغالطہ، وسوسہ، وہم، خیال، فریب نظر، موہوم پیکر، مایا، گمان، تکبر، خود پسندی، حد سے زیادہ غرور، امارت پرستی، سراب، بے اصل باتیں، معمولی سی چیزیں، باتیں، خطرہ، الـغرور بنفسه: خود فریبی غَرُور: مغالطہ آور دھوکے میں ڈالنے والی (چیز) پُرفریب، مغالطہ آمیز، وہمی، غیر حقیقی، غَرِير: فریب خوردہ، گمراہ، اکسایا ہوا، ترغیب دیا ہوا جمع اَغِرَّاء: ناتجربہ کار، معصومانہ، صاف دل، بے تصنع، سادہ لوح، دھوکا کھا جانے والا۔ غِرار: تلوار کی (کاٹ دار) دھار۔ علی غِرارٍ و غِرارًا: عجلت میں، جلدی جلدی،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تیزی سے۔ علی (من) غِرار: کی طرح، جیسا، کے انداز کا، کے نمونہ پر۔ علی ھذا الغرار: اسی طرح علی غِرار واحدٍ: کے نمونہ کا، اسی طرح، اسی انداز سے، یکساں، ایک سا، ایک ہی طرح۔ غرّار: مغالطہ یا دھوکے میں ڈالنے والی (شے) پر فریب، مغالطہ آمیز غَرارة: خودغرضی، بے پرواہی، غفلت، بے مروتی۔ علی غرارةٍ: کے نمونہ پر، کی طرح، غِرارة: بورا اَغَرّ م غَرّاء جمع غُرّ: سفید پیشانی والا (گھوڑا) خوبصورت، خوش شکل، فراخ دل، سخی، فیاض، شریف، موقر، قابل احترام۔ اغر محجّل: منفرد، بے مثال، فقید المثال، مَغرور: فریب خوردہ، بیوقوف بنایا ہوا، گمراہ، اکسایا ہوا، ترغیب دیا ہوا، بہکایا ہوا، سبز باغ دکھایا ہوا، چندھیا ہوا، اندھا، خودبیں، خودنما، خود پسند، مغرور، متکبر، امارت پرست سا۔

غرب ۱۔ غَرَبَ ـُ غَرْبًا جانا۔ فلانٌ عنا: سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ فی سفرہ: دور کا سفر کرنا۔ غُرْبًا الرجلُ: دور ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ اُغْرُبْ عَنّی مجھ سے دور ہو۔ غُربةً و غُرْبًا و غَرابةً: وطن سے جدا ہونا، پردیسی ہونا۔

غَرَّبَ: دور ہونا، وطن سے جدا ہونا، غَرَّبَہُ: کو دور کرنا، علیحدہ کرنا، کو مسافرت پر اکسانا، جلاوطن کرنا۔ فی الارض: میں دور تک جانا۔ اَغْرَبَ: ملک میں دور تک گھس جانا۔ ہ: کو علیحدہ کرنا۔ تَغَرَّبَ: وطن سے نکلنا۔ اِغْتَرَبَ: وطن سے نکلنا، غیر اقارب میں شادی کرنا۔ الغَرْب جمع غُرُوب: دوری۔ الغُرُب: اجنبی، پردیسی۔ الغَرْبة: دوری۔ غُراب نوح: جس سے اس شخص کی مثال دی جاتی ہے جو کھو جائے اور واپس نہ آئے۔ الغَریب جمع غُرَباء: وطن سے دور۔ رجُلٌ غَریب: ناواقف غیر مانوس دوسری قوم کا۔ عَنقاء مُغرِبٌ و مُغرِبَةٌ: ایک فرضی پرندہ۔

۲۔ غَرَبَ ـُ غُرُوبًا النجمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ غَرَّبَ: مغرب میں پہنچنا۔ اَغْرَبَ: مغرب میں جانا۔ تَغَرَّبَ: مغرب کی طرف سے آنا۔ الغَرْب جمع غُرُوب (فلک): مغرب، سورج غروب ہونے کی سمت۔ المَغْرِب: سورج غروب ہونے کی جگہ، افریقہ کا ایک ملک۔ المُغْرِب: صبح المَغرِبی جمع مَغارِبة: مغرب کا باشندہ مَغرِبانُ الشمس: جہاں سورج غروب ہو۔

۳۔ غَرُبَ ـُ غَرابةً الکلامُ: کلام کا غیر واضح اور پیچیدہ ہونا۔ الشیئُ: غیر مانوس ہونا۔ اَغْرَبَ: نوادرات بیان کرنا۔ فصیح ہونا۔ علیہ و بہ: کے ساتھ مکروہ دھوکا کرنا۔ اِستَغرَبَ الشیئَ: کو عجیب پانا یا سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: سہمٌ غَرْبٍ و غَرَبٍ و سہمٌ غَرْبٌ و غَرَبٌ: وہ تیر جس کے چلانے والا کا پتہ نہ ہو۔ الغَریب جمع غُرَباء: عجیب، غیر مانوس۔ م غَریبَة جمع غَرائِب من الکلام: دور از فہم کلام۔

۴۔ غَرِبَ ـَ غَرَبًا: بادسموم سے سیاہ چہرے والا ہونا۔ الغَرَب (ن): درخت الغُراب جمع اَغْرُب و غُرُب و غِربان و اَغْرِبة و جج غَرابِین (ح): کوا، سیاہی، دوری، صبح اٹھنے اور چوکس رہنے میں کوے کی مثال دی جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ بکَرتُ بُکُورَ الغُراب: میں کوے کی طرح صبح سویرے اٹھا۔ دون ھذا شَیبُ الغُراب: کوے کی سیاہی اس سے کم ہے۔ فلانٌ اَحذَرُ من الغراب: فلاں شخص کوے سے زیادہ چوکنا اور چوکس ہے۔ ارضٌ لایطیر غُرابُھا: بہت پھلدار زمین۔ طَارَ غُرابُہ: وہ بوڑھا ہو گیا۔ غُرابُ الزرع (ج): کوے کی قسم کا ایک پرندہ، جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے جو کھنڈرات وغیرہ میں سکونت رکھتا ہے۔ اَغْرِبةُ العَرَب: عرب کے سیاہ لوگ۔

۵۔ اَغْرَبَ: اچھی حالت میں ہونا۔ الحوضَ: حوض بھرنا۔ الغَرَب: سونا، چاندی، پیالہ، شراب۔

۶۔ اَغْرَبَ فی الضحِك و نحوہ: بہت ہنسنا۔ الفرسُ فی جریہ: گھوڑے کا بہت دوڑنا۔ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر مارنا۔ و اُغْرِبَ المریضُ: بیمار کا درد تیز ہونا۔ اِستَغرَبَ و اُستُغرِبَ فی الضحك: بہت ہنسنا۔ الغَرْب ج غُرُوب: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔

۷۔ اِستَغرَبَ الدمعُ: آنسو بہنا۔ الغَرْب جمع غُرُوب: ہمیشہ جاری رہنے والی آنکھ کی رگ۔ آنسو۔ آنسو بہنے کی جگہ۔ آنکھ کا اگلا حصہ۔ آنکھ کا پچھلا حصہ، آنکھ کی پھنسی، گوشہ چشم کا ورم، تھوک کی کثرت، بڑا ڈول۔ الغَرَب: پانی جو کنویں اور حوض کے درمیان ڈول سے ٹپکے کہا جاتا ہے۔ بعینہ غَرْبٌ: اس کی آنکھ سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔

۸۔ الغارِب جمع غَوارِب (ع): کندھا یا کوہان اور گردن کے درمیان کا حصہ۔ ہر چیز کا اوپر کا حصہ۔ غَوارِبُ الماء: بلند موجیں۔ الغَرْب جمع غُرُوب: ہر چیز کی ابتداء۔ دھار، سرگرمی و تیزی، کہا جاتا ہے: انّی اخافُ علیك غَرْبَ الشباب: میں تمہاری جوانی کی تیزی اور سرگرمی سے ڈرتا ہوں۔ المَغْراب: اولہ۔ برف، سرکا پچھلا حصہ۔ قدیم زمانہ کی ایک کشتی۔ من کل شیئ: ہر چیز کا شروع، دھار جیسے غرابُ الفأس (کلہاڑی کی دھار) رِجلُ الغُراب (ن): بوٹی، جڑی بوٹی، الغُرابان (ع): دونوں سرینوں کے نچلے حصے جو رانوں سے ملتے ہیں۔ المُغْرَب: صبح۔ ہر سفید چیز یا سفید کناروں والی شے۔

۹۔ الغِربیب: بہت سیاہ۔ اکثر تاکید کے طور پر آتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: اَسْوَدُ غِربِیبٌ: کالا کلوٹا۔

۱۰۔ غَربَلَ غَربَلَةَ الحنطةَ: گیہوں چھاننا۔ (مولدین کے ہاں نخل آٹے کے لئے اور غربلة اناج کے لئے استعمال کیا جانا مشہور ہے۔ البلدَ: ملک کے باشندوں کی حالت کی چھان بین کرنا۔ الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الگ الگ کرنا۔ القومَ: قوم کو قتل کرنا اور کچل ڈالنا۔ فی الارض: زمین میں جانا۔ الغِربال جمع غَرابیل: چھلنی، دف، چغل خور۔ المُغَربَل (مفع): گھٹیا۔ مقتول جو پھول گیا ہو، زوال پذیر ملک۔

○ غَرَبَ ـُ غَرْبًا عن: سے دور جانا، کو چھوڑ کر چلا جانا، سے غیر حاضر ہونا۔ عن: کو چھوڑنا، ترک کرنا، غَرَبَ ـُ غُرُوبًا: (سورج وغیرہ کا) غروب ہونا۔ غَرُبَ ـُ غَرابةً: اجنبی ہونا، عجیب و غریب ہونا، تاریک ہونا، غیر واضح ہونا، مبہم ہونا، دھندلا سا ہونا، مشکل ہونا، عسیر الفہم ہونا، پیچیدہ ہونا، غامض ہونا، لا یَغْرُبُ عنك اَن: آپ کے نوٹس میں یہ بات آئے بغیر نہیں رہی ہوگی کہ، آپ یقیناً اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ۔

غَرَّبَ: دور چلا جانا، چھوڑنا، ترک کرنا، روانہ ہونا، غیر حاضر ہونا، مغرب کی طرف جانا۔ ہ: کو وطن سے نکال دینا، جلاوطن کرنا، نکال باہر کرنا، خارج کرنا۔ غَرَّبَ و شَرَّقَ: زمین میں ہر طرف یا ادھر ادھر جانا، دنیا دیکھنا۔ اَغْرَبَ: کوئی عجیب اور حیران کن بات کہنا یا کوئی عجیب اور حیرت انگیز کام کرنا۔ فی: میں مناسب حدود سے تجاوز کرنا، میں مبالغہ کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، میں مبالغہ سے کام لینا، اَغرب فی الضحك: چلا کر ہنسنا، جوش و خروش سے ہنسنا، قہقہے مار کر ہنسنا۔ تَغَرَّبَ: کسی اجنبی ملک میں جانا، ترک وطن کر کے جانا، اپنے وطن سے (بہت) دور ہونا، مغربی یا فرنگی ہو جانا، آپنے آپ کو مغربی یا یورپی رنگ میں رنگ لینا، اپنے آپ کو مغربی طرز زندگی میں سمو لینا۔ اِغْتَرَبَ: کسی اجنبی ملک میں چلا جانا، ترک وطن کر لینا، اپنے وطن سے (بہت) دور ہونا۔ اِستَغرَبَ ہ: کو عجیب یا غیر معمولی پانا۔ کو بیہودہ خیال کرنا، لچر سمجھنا، مضحکہ خیز جاننا، ناپسند کرنا استغرب: مغربی یا فرنگی ہو جانا، اپنے آپ کو مغربی یا یورپی رنگ میں رنگ لینا، اپنے آپ کو مغربی طرز

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زندگی میں سمولینا۔ استغرب فی الضحك: چلا کر ہنسنا، جوش وخروش سے ہنسنا، قہقہہ مار کر ہنسنا، غَرْب: مغرب، پچھم، مغربی ممالک، مغربی تہذیب، تشدد، شدت جوش، سختی، ہنگامہ خیزی۔ الغرب: مغرب، مغربی ممالک، مغربی تہذیب، غَرْبًا: مغربی طرف، مغربی جانب۔ فَلَّ غَرْبَهٗ: کوزیر کرنا، مغلوب کرنا، افسردہ کرنا۔ غَرْبًا بجنوب: جنوب مغربی طرف، جنوب مغرب کی طرف غربی: مغربی، مغربی ممالک یا تہذیب کا مغربی ملکوں کا باشندہ، الغربیون: مغربی کلیسا۔ غُرْبَة: وطن سے غیر حاضری، آبائی ملک سے علیحدگی، جلا وطنی، وطن سے دور زندگی یا جگہ۔ غُراب جمع غِربان و أَغْرُب و أَغْرِبَة: کوا، پہاڑی کوا، پھل (خصوصاً کلہاڑی کا) غَرِیب جمع غُرَباء: عجیب، اجنبی، غیر ملکی، پردیسی، ــــ علی / عن: سے غیر متعلق، الگ، مختلف، جدا، علیحدہ غریب: عجیب و غریب، انوکھا، غیر معمولی، نرالا، حیرت انگیز، حیران کن، پریشان کن، چونکا دینے والا، حواس باختہ کرنے والا، مضحکہ خیز، عسیر الفہم، غیر معروف (زبان) دور، شاذ، جمع اغراب: اجنبی، پردیسی، غیر ملکی، اغراب: غیر ممالک میں رہنے والے اپنے وطن سے دور لوگ، غریب الاطوار: خبطی، موجی، متلون مزاج، پل میں تولہ پل میں ماشہ، من موجیا، لہری، سنکی، سڑی، مادۃٌ غریبة: غیر متعلق جوہر، خارجی جرم۔ غَرِیبَة جمع غرائِب: انوکھا پن، عجیب، اور غیر معمولی چیز، تجسس، حیرت انگیز بات، یا چیز، اعجوبہ، حیرت انگیز، حیرت، حیرانی تعجب، غُرُوب: (سورج، ستاروں کا) غروب ہونا۔ غرابة: انوکھا پن، نرالا پن، عجیب ہونا، یکتائی، أَغْرَب: زیادہ غیر معمولی، عجیب تر، زیادہ مختلف، زیادہ پردیسی، مَغْرِب جمع مَغارِب: سورج غروب ہونے کی جگہ یا وقت، مغرب، مغرب کی نماز المغرب: مراکش، شمالی افریقہ مغرب الشمس: سورج غروب ہونے کا وقت شفق کی سرخی بلاد المغرب: مغرب، شمالی افریقہ، مشارق الارض و مغاربها: کل دنیا المشرقان و المغربان: تمام دنیا فی المغربین و فی المشرقین: دنیا بھر میں، پوری دنیا میں مغربی: شمالی افریقہ کا مغرب کا یعنی مراکش کا جمع مغاربة: شمالی افریقی، مغربی یعنی مراکشی (باشندہ) تغریب: دیس نکالا، جلا وطنی، تَغَرُّب: اپنے آبائی ملک سے علیحدگی، ترک وطن، مغربیت اِغْتِراب: آبائی وطن سے جدائی، ترک وطن، مغربیت۔ اِستغراب: حیرت، تعجب، اچنبھا، استعجاب، حیرانی، حیرت کی بات، غارِب جمع غَوارِب: اونٹ یا گھوڑے کا کندھا یا کوہان اور گردن کے درمیان کا حصہ۔ جھال حبلك (الغی) حبلة علی غاربه: کو کھلی چھٹی دینا۔ مُغَرَّب: جلاوطن، دیس سے نکالا ہوا، مُغْتَرِب: اجنبی، پردیسی، وطن سے دور رہنے والا۔ مُسْتَغْرِب: مغربی تہذیب یا یورپی تہذیب میں رنگا ہوا۔ غَرْبَل ہ: کو چھاننا، کو چھاج میں پھٹکنا، غِرْبال جمع غَرابِیل: چھلنی، غرابلی جمع غرابلون و غرابلیة: چھلنیاں بنانے والا یا بیچنے والا۔

غرث: غَرِثَ ـ غَرَثًا: بھوکا ہونا، غَرْثان جمع غَرْثَی و غَرَاثَی و غِرَاث: بھوکا مونث غَرْثَی جمع غِرَاث، غَرَّثَ الكلب: کتے کو بھوکا رکھنا۔ الغَرِث و الغَارِث: بھوکا۔

غرد: ۱۔ غَرِدَ ـ غَرَدًا و غَرَّدَ و تَغَرَّدَ الطائرُ: پرندے کا چہچہانا گانا۔ اَغْرَدَهُ الطائرُ: کو پرندے کا چہچہا کر خوش کرنا۔ اِسْتَغْرَدَهٗ: کو گانے پر اکسانا۔ الأُغْرُود و الأُغْرُودة جمع أغارِيد: پرندے کا گیت، الغَرِد و الغَرِد و الغِرِّيد: گانے والا۔

۲۔ الغَرْدِينِيا (ن): درخت کی ایک قسم، جس کے پتے ہمیشہ سبز رہتے ہیں اور پھول خوشبودار ہیں اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ سجاوٹ کے کام آتا ہے۔

○ غَرِدَ ــ غَرَدًا و غَرَّدَ و تَغَرَّدَ: پرندے کا گانا، چہچہانا، چیں چیں کرنا، سریلی آواز نکالنا۔ غَرِدَ: پرندے کا گانا، چہچہانا، نغمہ، نغموہ طائر۔ غُرُد جمع غُرُود: ریت کا ٹیلہ، جگہ بدلنے والا ریت کا ٹیلہ، غِرِّيد: (پرندے کا گانا، چہچہانا، سریلی آواز نکالنا، چہچہاہٹ أُغْرُودَة جمع أغارِيد: پرندے کا چہچہانا، گانا، سریلی آواز نکالنا۔ نغمه طائر مُغَرِّد: گانے والا، چہچہانے والا، سریلی آواز نکالنے والا (پرندہ) طائر مُغَرِّد: گانے والا پرندہ۔

غرز: ۱۔ غَرَزَ ـ غَرْزًا ہُ بالا برة و نحوها: کو سوئی وغیرہ چبھونا۔ الإبْرَة فی الشیء: کسی چیز میں سوئی داخل کرنا۔ ــ عُودًا بالارض: زمین میں لکڑی گاڑنا ــ ت الجَرادةُ: ٹڈی کا زمین میں دم گاڑ کر انڈے دینا۔ صفت غارِز و غارِزة۔ غَرَّزَ الابرةَ فی الشیء: کسی چیز میں سوئی داخل کرنا ــ ت الجرادةُ: ٹڈی کا زمین میں دم گاڑ کر انڈے دینا۔ صف أَغْرَزَ الإِبْرَةَ بمعنی غَرَزَ ہ ــ الوادی: وادی کا غرز نامی پودا اگانا۔ اِغْتَرَزَ فی الشیء: میں داخل ہونا۔ الغَرْز جمع غُرُوز: زمین میں گاڑی ہوئی لکڑی۔ الغَرَز (ن): ایک چھوٹا پودا۔ عیونٌ غَوارِزُ: نہ بہنے والے چشمے۔ التَّغْرِیز: التغاریز کا واحد، کھجور کا پودا جو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگایا گیا ہو المَغْرِز جمع مَغارِز: گاڑنے کی جگہ

۲۔ غَرَزَ ـ غَرْزًا الراکبُ رِجْلَهٗ فی الغَرْز: سوار کا رکاب میں پاؤں رکھنا۔ اِغْتَرَزَ السیرُ: روانگی کا قریب ہونا ــ فلانٌ السیرَ: سوار ہونا، کی روانگی کا قریب ہونا ــ الراکبُ رِجْلَهٗ فی الغَرْز: سوار کا رکاب میں پاؤں رکھنا۔ الغَرْز (مص) جمع غُرُوز: رکاب۔ کہا جاتا ہے۔ اشْدُدْ یدیك بِغَرْزِه: اپنے آپ کو اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنے پر آمادہ کر۔

۳۔ غَرِزَ ـ غَرْزًا: نافرمانی کے بعد اطاعت کرنا۔ الغَرْز (مص): کہا جاتا ہے۔ اِلْزَمْ غَرْزَ فلان: اس کے رکاب کو پکڑے رہو، اس کے فرمانبردار رہو۔ الغَرِيزَة جمع غَرائِز: طبیعت، فطرت۔

۴۔ غَرَّزَ الغَنَم: بکری کا دودھ دوہنا چھوڑ دینا تا کہ وہ موٹی ہو جائے۔ الغارِزَة: کم دودھ والی اونٹنی۔

○ غَرَزَ ــ غَرْزًا ہ ب: کسی چیز میں کوئی چیز (جیسے سوئی) چبھونا۔ ــ ہ فی: کو میں گھسیڑنا، کو میں ڈالنا، کو میں داخل کرنا، کو میں چبھونا، کو میں گھونپنا، کو میں بھونکنا، کو میں ٹھونسنا، کو میں ٹھونس ٹھونس کر بھرنا، کو میں دھکیلنا، کو میں بونا، کو میں لگانا، کو میں رکھنا، گاڑنا، غَرَّزَ ہ فی: بمعنی غَرَزَ ہ فی ـ أَغْرَزَ ہ فی بمعنی غَرَّزَ ہ فی۔ تَغَرَّزَ فی: کے آر پار ہونا، کو چیرنا، میں رکھا جانا، میں ڈلنا، میں داخل ہونا، میں گڑ جانا، اِنْغَرَزَ فی: کے آر پار ہونا، پر بہت اثر کرنا، میں سرایت کرنا، میں گھر کرنا، اِغْتَرَزَ فی: میں گہرائی تک جانا، پر اثر کرنا، میں رکھا جانا، میں ڈلنا، گڑ جانا۔ اِغْتَرَزَ السَّیْرَ: اس نے روانگی کے لئے تیار ہو کر اپنا پاؤں رکاب میں رکھا، اس کی روانگی کا وقت نزدیک آ گیا۔ غُرْزَة جمع غُرَز: ٹانکا، بخیہ، چبھن، غریزة جمع غرائز: طبیعت، فطرت، جبلت، وجدان، حیوانی عقل، ترنگ، جذبہ، غَرِیزِی: طبعی، پیدائشی، خلقی، قدرتی، اصلی، جبلی، فطری مَغْرِز جمع مَغارِز: شوخی، عملی مذاق۔

غرس: ۱۔ غَرَسَ ــ غَرْسًا و غِراسةً و أَغْرَسَ الشجرَ: درخت کو زمین میں لگانا۔ اِنْغَرَسَ: درخت کا زمین میں لگانا۔ الغَرْس (مص): جمع غِراس و أَغْراس: لگایا ہوا (پودا) الغِرس جمع أغراس جو چیز زمین میں لگائی جائے الغِراس: لگایا ہوا پودا۔ لگانے کا وقت کہا جاتا ہے۔ هذا زمنُ الغِراس: یہ پودے لگانے کا وقت ہے۔ الغَرِیس: لگایا ہوا پودا۔ الغَرِیسَة جمع غَرائِس و غِراس: نیا گا ہوا کھجور کا پودا، بوئی ہوئی گٹھلی، کھجور کا پودا لگانے سے پھلدار ہونے تک)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المَغرِس جمع مَغَارِس: پودہ لگانے کی جگہ۔

۲۔ الغِرسُ جمع أغراس: پانی جو بچہ کے ساتھ رحم سے آئے۔ (ح): چھوٹا کوّا۔ الغَرِیس (ح): بھیڑ۔

○ غَرَسَ ـِ غَرْسًا ہ فی: کو میں لگانا کو میں ڈالنا، کو میں رکھنا، جڑنا، دھرنا، بٹھانا، میں بڑھانا، أغرَسَ ہ بمعنی غَرَس اِنغَرَسَ: پودا کا لگنا، میں بیٹھنا، غَرْس: لگایا ہوا (پودا) جمع اغراس و غِراس: ، پودا، داب، پنیری، ننھا پودا، تخمی پودا۔ غرس جمع أغراس: پودا، داب، پنیری، ننھا پودا، تخمی پودا۔ غِرَسَة: پودا۔ غِراس: پودا، پودے لگانے کا وقت، غِراسَة: کاشت، اگنا۔ غِراسَة الزیتون: زیتون کے درختوں کی کاشت۔ غِراسَة العنب: انگوروں کی کاشت۔ غَرِیسة جمع غَرَائِس و غِراس: پنیری، داب، ننھا پودا، تخمی پودا۔ مَغرِس جمع مَغَارِس: وہ جگہ جہاں کوئی چیز لگائی یا رکھی جائے، پودگھر، پودکیاری، درختوں والا رقبہ، باغات، کھیت، کیاری۔ مُغارَسَة جمع مُغارسات: پھلوں کے باغ کا ٹھیکہ جس کی رو سے پٹہ پر لینے والا باغ کے نفع دینے کے بعد اس کے نصف کا مالک ہو جاتا ہے (ٹیونس) مُغارِسی جمع مُغارسون: باغوں کا ٹھیکہ لینے والا۔

غرش: الغِرش من المسکوکات جمع غُرُوش: ایک سکہ جو چالیس باروں کے برابر ہوتا ہے۔ (ترکی لفظ ہے اٹلی زبان کے کروسو یا جرمنی کے جِرِدش سے لیا گیا ہے)۔

غرض: غَرَضَ ـِ غَرْضًا الإناءَ: برتن بھرنا، تھوڑا سا کم بھرنا۔ غَرَّضَ فی سقاءِہٖ: مشک نہ بھرنا، کہا جاتا ہے۔ فلان بحر لا یُغَرَّض: فلاں شخص نہ ختم ہونے والا سمندر ہے۔ أغرض الاناءَ: برتن بھرنا۔

۲۔ غَرَض ـِ غَرْضًا الشیءَ: کو تازہ تازہ چننا، کو وقت سے پہلے کرنا۔ ـــ غَرِیضًا لہ: کو تازہ دودھ پلانا۔ غَرُضَ ـُ غِرَضًا اللحمُ: گوشت کا تازہ ہونا۔ صفت۔ غَرِیض جمع اَغارِیض۔ غَرَّضَ: تازہ گوشت کھانا۔ ـــ الشیءَ: کو تازہ تازہ چننا، غَارَضَ الإبلَ: اونٹوں کو صبح کے وقت پانی پر لانا۔ اِغتَرَضَ فلانٌ: جوان مر جانا۔ الغَارِض (فا): صبح کو پانی پر آنے والا۔ أتیتُہ غارِضًا: میں اس کے پاس دن کی ابتداء کے وقت آیا۔ الغَرِیض: بارش کا پانی، وہ پانی جس پر صبح سویرے آئیں۔ ہر سفید تازہ چیز۔ الاغرِیض جمع اَغارِیض: ہر سفید تازہ چیز۔ شگوفہ المَغرُوض (مفع): بارش کا پانی۔

۳۔ غَرَضَ ـِ غَرْضًا الشیءَ: کو اس طرح توڑنا کو جدا نہ ہو۔ تَغَرَّضَ و انغَرَضَ الغُصنُ: ٹہنی کا مڑ کر ٹوٹنا مگر جدا نہ ہونا۔

۴۔ غَرَضَ ـِ غَرْضًا الشیءَ: سے رکنا، باز رہنا۔ غَرِضَ غَرَضًا منہ: سے اکتانا، ملول ہونا، ڈرنا۔ أغرَضَ فلانًا: کو تنگ کرنا، پریشان کرنا۔

۵۔ غَرَضَ ـِ غَرَضًا الیہ: کا مشتاق ہونا۔ صفت غَرِض

۶۔ غَرَّضَ فلانًا: کو نشانہ بنانا۔ أغرَضَ الغَرَضَ: نشانہ پر لگنا۔ اِغتَرَضَ الشیءَ: کی شِشت باندھنا، کو ہدف بنانا الغَرَض (مص) جمع أغراض: خواہش حاجت، مقصد، نشانہ، (کہا جاتا ہے۔ فهمت غرضك: میں تمہارا ارادہ اور مقصد سمجھ گیا ہوں۔) ٹولہ گروہ جماعت، کہتے ہیں: غَرَضُہ کذا: اس کی جماعت ایسی ہے۔ المُغرِض جمع مُغرِضون و المُتَغَرِّض جمع مُتَغَرِّضون: طرف دار، متعصب، مبنی بر مقصد کہتے ہیں۔ ھو مُتَغَرِّضٌ علیہ او ضدّہ: وہ اس کے خلاف میلان رکھتا ہے۔

۷۔ غَرَّضَ: مزاح کرنا۔ الغَرِیض: خوش کن گیت، عمدہ گویا۔

۸۔ الغَارِض: لمبی ناک۔ الغَرْض جمع غُرضان و غِرضان و اَغرُض: وادی کی ناقص شاخ۔ ـــ جمع اَغراض و غُرُوض و الغُرضَة جمع غُرُض و غُرْض: کجاوہ کا تنگ۔ المَغرِض جمع مَغَارِض: اونٹ کا تنگ۔

۹۔ الغُرضُوف جمع غَرَاضِیف: نرم ہڈی جیسے ناک کان وغیرہ کی۔ الغرضوفان: اونٹ کے پالان کے ہر دو طرف کی لکڑیاں۔

○ أغرَضَ الغَرَض: مقصد حاصل کر لینا۔ تَغَرَّضَ لہ: کی طرفداری کرنا، کا جانبدار ہونا، کے لئے میلان رکھنا، تعصب رکھنا، سے خصوصی رغبت رکھنا، غَرَض جمع أغراض: نشانہ، ہدف، مقصد، ارادہ، منشا، نیت، مراد، مطلب، ذاتی مفاد، رجحان، میلان، تعصب، میلان خاطر جمع أغراض: روزمرہ استعمال کی چیزیں، اشیاء، چیزیں۔ متفرقات۔ غَرَضی: رجحان کا، میلان کا، غَرِیض جمع اَغارِیض: تازہ۔ نرم۔ تَغَرُّض: میلان خاطر۔ تعصب، مبنی بر مقصد رویہ۔ مُغرِض: جانبدارانہ، مبنی بر مقصد، جمع مُغرِضون: جانبدار، طرف دار، متعصب ذاتی مفادات کو سامنے رکھنے والا۔

غرف: ۱۔ غَرَفَ ـِ غَرْفًا و اغتَرَفَ الماءَ بیدہ: پانی سے چلو بھرنا۔ تَغَرَّفَہٗ: کی سب چیزیں لے لینا الغَرْف (مص) و الغَرَف: وہ پودا جس سے چمڑا رنگا جاتا ہے۔ الغُرفَة جمع غِراف [illegible] وغیرہ۔ الغِرفَة جمع غِرَف: چلو بھرنے کی ہیئت۔ جوتا الغَارِفَة جمع غَوَارِف: غارف کا مونث۔ الغِراف: ایک بڑا پیمانہ۔ الغَرَّاف: بہت چلو لینے والا۔ نھرٌ غَرَّاف: بہت پانی والی نہر۔ غَیثٌ غَرَّاف: بہت بارش۔ الغَرُوف من الآبار: وہ کنواں جس سے پانی چلو سے لیا جائے۔ الغَرِیفَة: جوتا، تلوار کے پرتلے کے نیچے کا چمڑا۔ المِغرَفَة جمع مَغَارِف: ڈوئی۔ بڑا چمچہ۔

۲۔ غَرَفَ ـُ غَرْفًا الشیءَ: کو کاٹنا۔ ـــ ناصیتَہٗ: پیشانی کے بال تراشنا۔ اِنغَرَفَ الشیءُ: کٹنا، مڑنا، ٹوٹنا۔ ـــ العظمُ: ہڈی کا ٹوٹنا۔ ـــ فلانٌ: مر جانا۔ الغُرفَة جمع غُرَف و غُرُفات و غُرَفات و غُرْفات: بالوں کا گچھا۔ الغَارِفَة جمع غَوَارِف من النوق: تیز رفتار اونٹنی۔ المِغرَف جمع مَغَارِف: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے۔ فارِسٌ مِغرَفٌ: (تیز دوڑنے والا گھوڑا)

۳۔ الغُرفَة جمع غُرَف و غُرُفات و غُرَفات و غُرْفات: چھوٹا کمرہ، بالاخانہ۔ الغَرِیف: بانس نرکل وغیرہ کی جھاڑی۔ ـــ من الشجرَ: گھنا درخت۔

۴۔ الغَرِیفَة: گھنا درخت۔ الغِرِیفِیلیَا (ن): ایک قسم کا درخت یا پودے۔

○ غَرَفَ ـِ غَرْفًا ہ: کو ڈوئی، چمچے یا کفچے سے نکالنا۔ ـــ ہ: کوئی چیز (جیسے کھانا) ڈوئی کے ذریعے نکال کر پیالہ وغیرہ میں ڈال کر پیش کرنا۔ ـــ ہ: کھانا پیش کرنا۔ اِغتَرَفَ ہ من: کو سے ڈوئی یا کفچے سے نکالنا۔ غُرفَة جمع غِراف: چلو بھر پانی۔ مٹھی بھر، ذرا سا، جمع غُرفات و غُرَف: بالائی منزل کا کمرہ، کمرہ، ایوان چیمبر (Chamber) کیبنٹ، کمپارٹمنٹ، وارڈ، غُرفَة الاکل: کھانے کا کمرہ۔ غُرفَةُ التجارة: یا الغرفة التجاریة: ایوان تجارت (Cahmber of Commerce) غُرفَة السُفرَة: کھانے کا کمرہ۔ غُرفَةُ القیادة: دیدبان (Bridge) غُرفَةُ النوم: سونے کا کمرہ۔ بیڈروم Bedroom غَرَّاف جمع غَرَارِیف: رہٹ۔ مِغرَفَة جمع مَغَارِف: بڑا چمچہ۔ ڈوئی، کفچہ۔

غرق: ۱۔ غَرَقَ ـُ غَرْقًا من اللبن: دودھ کا گھونٹ پینا۔ غَرِقَ ـَ غَرَقًا فلانٌ: دودھ کا گھونٹ پینا۔ الغُرقَة جمع غُرَق: دودھ وغیرہ کا گھونٹ۔

۲۔ غَرِقَ ـَ غَرَقًا فی الماء: پانی میں ڈوب جانا، غرق ہو جانا، صفت غَارِق و غَرِق و غَرِیق جمع غَرقَی: عام لوگ غَرِیق کو غَرَق کے معنی میں استعمال کرتے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہیں۔ غَرَّقَ ہٗ کوڈبونا۔ اللجامَ بالفِضّہ لگام کو چاندی
سے آراستہ کرنا۔ غَارَقَ ہٗ کے نزدیک آنا۔ کہا جاتا
ہے۔ غَارَقَتْنِی المنیۃُ موت میرے نزدیک آگئی۔
اَغْرَقَ ہٗ: کو غرق کرنا۔ ڈبونا۔ ـــ اللجام بالفضۃ:
لگام کو چاندی سے آراستہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ اَغْـرَقَ
اعمالہٗ بالمعاصی اس نے اپنے نیک کاموں کو گناہوں
سے برباد کر دیا۔ اِسْتَغْرَقَ الشئیَ کو سب کا سب لے
لینا۔ ـــ فی النوم گہری نیند سونا۔ اِغْـرَوْرَقَ ت
العینُ آنکھ کا آنسوؤں سے بھر جانا۔

۳۔ غَرِقَ ـُ غَرَقًا بے پرواہونا، غنی ہونا۔

۴۔ غَرَّقَ فی القوس کمان کو بہت کھینچنا۔ اَغْرَقَ فی
القوس کمان کو بہت کھینچنا۔ ـــ فی الامر میں
مبالغہ کرنا، حد سے زیادہ کرنا۔ اِغْتَرَقَ النَفَسَ گہرا
سانس لینا۔ ـــ البعیرُ التصدیر اونٹ کی موٹائی کی
وجہ سے اس کے تنگ کا کس جانا۔ ـ الفرسُ الخیلَ:
گھوڑے کا گھوڑوں میں گھس کر آگے بڑھ جانا۔ کہتے
ہیں۔ فلانٌ یغترق العینَ خوبصورتی کی وجہ سے
جاذب نظر ہونا۔ اِسْتَغْرَقَ الغایۃَ حد سے آگے
بڑھنا۔ ـ فی الضحک کھل کھلا کر ہنسنا۔

۵۔ غَرُقَاَت الدجاجۃُ بیضتہا مرغی کا کچا انڈا اڈالنا یا
دینا۔ ـــ ت البیضۃُ کچا انڈا گرنا، نکلنا۔ الغِرْقِئُ:
انڈے کی سفیدی کی جھلی۔ انڈے کی سفیدی۔

◌ غَرِقَ ـــ غَرَقًا فی میں کود پڑنا، ڈبکی لگانا، غوطہ
لگانا، چھلانگ لگانا، غوطہ مارنا، ڈوب جانا، غرق ہو جانا،
میں ڈوبا ہوا ہونا، منہمک ہونا، مستغرق ہونا، مشغول
ہونا، کھویا ہوا ہونا، جذب ہونا، غَرَّقَ ہ / ھ کو ڈبکی
دینا، ڈوبا دینا۔ ڈبونا۔ ـ ھ کو ڈبونا، غرق کرنا۔ ـ ھ:
کو زیر آب کرنا، ـــ السوق بمنڈی کو سے بڑی
تعداد میں بھر دینا۔ اَغْرَقَ بمعنی غَرَّقَ نیز اغرق
فی میں حدود سے تجاوز کرنا۔ میں مبالغہ سے کام لینا،
میں حد سے زیادہ، فزوں بہت زیادہ ہونا، کو حد سے
زیادہ لیجانا۔ اَغْرَقَ فی الضحک: قہقہہ مارنا،
قہقہہ مار کر ہنسنا۔ تَغَـرَّقَ ڈوب جانا غرق ہو جانا۔
اِسْتَغْرَقَ فی نیند وغیرہ میں ڈوبا ہوا ہونا، میں ڈوبا ہوا
ہونا۔ ـ ہ / ھ کو جذب کرنا۔ منہمک کرنا، مشغول کرنا،
پر حق جتانا، بھرنا، اٹھانا، لینا (جیسے وقت لینا) گھیرنا
(جیسے جگہ)۔ ـ ھ: (وقت) لینا، (کچھ وقت) جاری
رہنا، رہنا۔ استغرق فی الضحک بمعنی اغرق
فی الضحک۔ اغرورقت عیناہ بالدموع اس
کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ غَرِیق جمع
غَرْقَی ڈوبا ہوا، ڈوبی ہوئی چیز۔ ـــ فی میں ڈوبا
ہوا، منہمک، جذب، غرقان ڈوبا ہوا۔ تَغریق:
ڈبونا، غرق کرنا، جہاز ڈبونے کے لئے اس کے
پیندے میں چھید کر دینا۔ زیر آب کرنا، بڑی تعداد میں
بھرنا۔ اِغراق بمعنی تغریق نیز: مبالغہ کرنا، حد سے
زیادہ، فزوں از حد یا بہت زیادہ ہونا، بے اندازہ ہونا،
حد درجہ، بے حد ہونا، اسراف، فضول خرچی، مبالغہ، غلو،
غارق ڈوبا ہوا، منہمک، جذب غارق فی
الدَهْشۃ سخت بھونچکا، ششدر، گہرا صدمہ پائے
ہوئے انتہائی دہشت زدہ۔ مُغْرِق فی میں ڈوبا ہوا،
منہمک، جذب، مُسْتَغْرِق (فی): میں ڈوبا ہوا،
منہمک، جذب۔

غرل: غَرِلَ ـَ غَرَلًا الصبیُّ بچہ کا غیر مختون ہونا صفت
اَغْرَل مونث غَرْلاء جمع غُرْل ـــ الغرل ڈھیلا
ڈھالا آدمی۔ بے تکا لمبا نیزہ۔ الاَغْـرَل سر سبزی کا
سال، آسودہ زندگی۔ الغُرْلَۃ جمع غُرَل وہ کھال جس
کو ختنہ کے وقت کاٹا جاتا ہے۔

غرم ۱۔ غَرِمَ ـــ غَرْمًا و غُرْمًا و غَرَامَۃً و مَغْرَمًا
الدَیْنَ قرض ادا کرنا۔ ـ فی التجارۃ تجارت میں
ٹوٹا ہونا، خسارہ ہونا۔ غَرَّمَ وَ اَغْرَمَ ہُ الدَیْنَ کو قرض
ادا کرنے کیلئے مجبور کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ غَرَّمَ السحابُ:
بادل نے مینہ برسایا۔ تَغَرَّمَ تاوان برداشت کرنا،
اپنے ذمہ لینا۔ اِغْتَرَمَ قرض کی ادائیگی کا ذمہ لینا۔
الغَرَامَۃ و الغُرْم: قرض، تاوان، ضرر، مشقت،
الغَرِیم جمع غُرَماء و غُرَّام قرض خواہ، قرض دار،
مخالف۔ المَغْرَم جمع مَغَارِم: قرض، تاوان، ضرر،
مشقت۔

۲۔ اُغْرِمَ بِالشَّی کا بہت مشتاق و دلدادہ ہونا صفت:
مُغْرَم ـ الغَرَام شوق، عشق، ہلاکت، دکھ، تکلیف۔

۳۔ الغرا ماتیق او الغَرَاما طِیْق گرامر، گرامر کی
کتاب، (یونانی لفظ)

◌ غَرِمَ ـَ غُرْمًا و غَرَامَۃً و مَغْرَمًا ھ: تاوان
وغیرہ) ادا کرنا۔ ـ نقصان اٹھانا۔ غَرَّمَ ہ پر جرمانہ
کرنا، پر جرمانہ عائد کرنا۔ اَغْرَمَ بمعنی غَرَّمَ ہ اُغْرِمَ
ب: کا بہت شائق ہونا۔ دلدادہ ہونا، محبت کرنے
والا ہونا، پر فریفتہ ہونا، کا گرویدہ ہونا، کا عاشق ہونا، پر
لٹو ہونا، تَغَرَّمَ کو جرمانہ کیا جانا۔ پر جرمانہ عائد کیا جانا۔
غُرْم ہرجانہ، ہرجہ، تاوان، نقصان، گھاٹا، خسارہ،
غَرَام ب پر فریفتگی۔ سے محبت، کا عشق، بے حد شوق،
کی شدید خواہش، رغبت۔ جرمانہ، تاوان، غَرَامِی:
جذباتی، پر جوش، جوشیلی، عاشقانہ، شہوانی، آشنائی کا،
مخفی معاشقہ کا، محبت کا، غَرَامِیات آشنائیاں، خفیہ
معاشقے، معاشقے، رومانیات، محبت کی باتیں، آشنائی
کی مہمیں۔ رسالۃ غرامیۃ محبت کا خط Love
latter۔ غَرِیم قرض خواہ، مقروض، مخالف،
حریف، مقابل، مد مقابل، دشمن، رقیب، توہین کرنے
والا۔ غَرِیْمَۃ مخالف، حریف، دشمن (عورت)
غَرَامَۃ جمع غَرَامات جرمانہ، تاوان، ہرجہ، ہرجانہ،
معاوضہ، تلافی، بدلہ۔ مَغْرَم جمع مَغَارِم ہرجہ، ہرجانہ،
نقصان، خسارہ، قرض، ادھار، (کی) ذمہ داری، مالی
ذمہ داری۔ جرمانہ۔ مُغْرَم ب کا دلدادہ، پر فریفتہ، کا
عاشق، سے محبت کرنے والا، کا شائق، پر لٹو۔

غرن: غَرِنَ ـَ غَرَنًا العجینُ گوندھے ہوئے آٹے کا
خشک ہونا۔ الغَرِن کمزور الغَرِین و الغِرْیَن سیلاب
کی لائی ہوئی مٹی (گیلی یا خشک)، جھاگ، بے وقوفی،
حماقت، الغرانیت سنگ مرمر کی ایک قسم، گرینیٹ
(Granite)

۲۔ الغُرْنُوق و الغِرْنِیق و الغُرْنَیق و الغُرانق جمع
غَرَانِق و غَرَانِیق و غَرَانِقَۃ (ح) سارس سے
مشابہ ایک آبی پرندہ۔ خوبصورت سفید فام جوان لڑکا یا
لڑکی۔ (شابٌ غُرانقٌ و صَبِیَّۃ غَرَانِق و غُرانِقَۃ)
ـ الغُرْنُوقی (ن) پودا جس کے پھول خوبصورت اور
مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔

◌ غُرْنُوق و غِرْنِیق جمع غرانیق کونج، کلنگ۔

غرو ۱۔ غَرَا ـُ غَرْوًا الرجُلُ تعجب کرنا۔ غَرِیَ ـَ
غَراءً و غَرًا و غُرِیَ و غُرّیَ و اَغْرِیَ بکذا کا
دلدادہ ہونا، گرویدہ ہونا، ـــ الغَرا حسن، خوبصورتی،
کہا جاتا ہے: بِہٖ غَرًا یعنی وہ حسین ہے۔ الغَـراء
و الغَرْوَی: کسی چیز کی بہت خواہش یا اشتیاق کہا جاتا
ہے۔ لاغَرْوَ و لا غَرْوَی من کذا یعنی کوئی تعجب
نہیں۔ الغَرِیّ خوبصورت، عمدہ عمارت۔ الغَرِیَّان:
حیرہ کے قریب دو مشہور عمارتیں تھیں۔

۲۔ غَرَا ـُ غَرْوًا الجلد کو سریش سے جوڑنا۔ الشحمُ
قلبَہٗ چربی کا دل کو ڈھک لینا۔ غَرِیَ ـَ غَرَاۃً بہ:
سے چمٹنا، کے ساتھ لگا رہنا۔ غَرّی تَغْرِیَۃً الشئیَ کو
سریش سے جوڑنا۔ غَارَی غِراءً و مُغَاراۃً فلانًا:
سے سخت جھگڑا کرنا۔ بین الشیئین دو چیزوں کو جوڑنا،
کو یکے بعد دیگرے کرنا۔ اَغْرَی الرجُلَ بکذا کو
کی ترغیب دینا، کو پر اکسانا۔ ـــ العلواۃ بینھم:
آپس میں فساد کرانا۔ اِلغَرَا و اِلغِرَا کاغذ یا جلد
جوڑنے کی چیز، سریش، وہ چیز جس سے طلا کیا جائے
المِغْرا ۃ سریش لگانے کا اوزار، نجار اور عام لوگ
اسے مِغْرَایَہ کہتے ہیں۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۳۔ غَرِیَ — غَرَاءً وغَرًا وغُرِیَ و غُرِّیَ و اُغْرِیَ الغدیرُ تالاب کے پانی کا سرد ہونا۔

۴۔ غَرِیَ — غَرَاءً وغَرًا وغُرِیَ و غُرِّیَ و اُغْرِیَ فلانٌ بہت ناراض ہونا۔

۵۔ الغِرِّیَّۃ چھوٹی جنگ یا انصار کی جنگ۔

○ غَرَا ـُ غَرْوًا ہ و غَرَّی ہ کو سریش سے چپکانا یا جوڑنا۔ اَغْری ہ ب کو کالالچی یا حریص بنانا۔ کو پر اکسانا، پر مجبور کرنا، ورغلانا، کو سے للچانا، کو کی ترغیب دینا، کو کی تحریص دینا، کو کچھ کرنے پر پھسلانا، بہکانا، ورغلانا، کو پر لگانا۔ — ہ کا باعث ہونا، کا باعث بننا۔ اُغْرِیَ ب: کی شدت سے خواہش کرنا، سے محبت کرنا، کا گرویدہ ہونا، اغری العداوۃ بین: کے درمیان دشمنی یا عداوت پیدا کرنا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا غَرًا و غِراء سریش غِرانی بریش کا چپکنے والا۔ غرَوِی: سریش کا، چپکنے والا، چپچپا، لیس دار، غَرَّایۃ سریش (ڈالنے) کا برتن مِغراۃ سریش (ڈالنے) کا برتن۔ اِغْراء ترغیب، انگیخت، تحریک، اشتعال، تحریص، لالچ، مہمیز، محرک، مہیج، ورغلانا، غلط راہ پر لگانا، (جرم یا گناہ کی) ترغیب۔ مُغْرٍ ورغلانے والا، تحریص دینے والا، ترغیب دینے والا، برانگیختہ کرنے والا، تحریک کرنے والا، اعانت جرم کرنے والا، گمراہ کرنے والا۔ مُغْرِیات: کششیں، پرکشش، اشیاء ترغیبات، تحریصات

غزّ: غَزَّ ـُ غَزًّا و اُغْتَزَّ بفلان: کو اپنے ساتھیوں میں سے خاص کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: غَزَّہٗ بالابرۃ: میں سوئی چبھونا۔ غَازَّ مُغَازَّۃً ہٗ پر سبقت کرنا، سے جھگڑنا۔ اَغَزَّ الشجرُ درخت کے کانٹوں کا سخت اور بکثرت ہونا۔ — ت البقرۃ گائے کا مشکل سے حاملہ ہونا۔ تَغَازَّ القومُ الشیءَ پر آپس میں جھگڑنا۔ الغُزّ یا چھ۔ ترکوں کی ایک قوم واحد غُزِّیّ: اَغَزَّ: کانٹے دار ہونا، خاردار ہونا، چبھونا۔ غَزَّۃ جنوبی فلسطین کی بندرگاہ) غَزِّی جالی، گاج (Gauze)

غزر ۱۔ غَزُرَ ـُ غَزْرًا و غَزَارَۃً وغُزْرًا الماءُ و غیرُہٗ: پانی وغیرہ کا بہت ہونا۔ — ت الناقۃُ اونٹی کا بہت دودھ والی ہونا۔ غَازَرَ و اسْتَغْزَرَ بہت لینے کی امید میں تھوڑا دینا۔ اَغْزَرَ المعروفَ بہت سخاوت کرنا — القومُ بہت دودھ والی اونٹنیاں رکھنا یا بہت بارش میں ہونا۔ تَغَزَّرَ الرجلُ زیادہ گوشت والا ہونا، موٹا ہونا۔ الغَزْر والغَزَارۃ کثرت، بہتات، افراط۔ الغَزِیر جمع غِزَار زیادہ، بہت۔ الغَزِیرۃ جمع غِزار غزیر کا مونث۔ — من النوق بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ من العیون بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔ من الابار والینابیع: بہت پانی والے کنویں اور چشمے۔ المِغْزار، من الابل بہت دودھ والی اونٹنی۔ مَکَانٌ مَغْزُورٌ جگہ جہاں بہت بارش ہوئی ہو۔

۲۔ الغَزْر کھجور کی شاخوں کی ٹوکری۔ الغَزَّار (ن) نرسل، بید کے پودے۔

○ غَزُرَ ـُ غَزْرًا و غَزَارَۃً بہت ہونا، فراواں ہونا، وافر ہونا، کثیر ہونا، بافراط ہونا، بکثرت ہونا، غَزْر بہتات، فراوانی، کثرت، افراط، غَزِیر جمع غِزَار: بہت زیادہ، بہت، فراواں، وافر، بافراط، بکثرت، بہت، گھنا، گنجان۔ — ب نے بھرپور، کی بہتات یا افراط والا۔ غَزِیرُ المادۃ بہت باخبر، عالم فاضل، کثیر المطالعہ۔ غزیر المواد بہت معلوماتی (کتاب) غَزَارۃ بمعنی غزر، غزاری کبوتر کی ایک قسم۔

غزل ۱۔ غَزَلَ ـِ غَزْلًا و اغْتَزَلَ الصوفَ اون کاتنا۔ اَغْزَلَت المرأۃُ عورت کا تکلہ پھیرنا۔ الغَزْل (مص): کاتا ہوا۔ الغَازِلۃ جمع غُزَّل و غَوَازِل: غازل کا مونث کاتنے والی۔ الغَزَّال بہت کاتنے والا۔ المِغْزَل والمَغْزِل و المُغْزَل جمع مَغَازِل: تکلہ۔ ضرب المثل ہے۔ اَغْرَی من المِغْزَل کیونکہ عورت تکلے پر کوئی چیز باقی نہیں رہنے دیتی۔ المُغَیْزِلُ مِغْزَل کی تصغیر ہے، باریک رسی۔

۲۔ غَزِلَ — غَزَلًا بالنساء عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی خوبصورتی اور جمال کی تعریف کرنا ان سے عشق بازی کرنا۔ غَازَلَ المرأۃَ عورت سے محبت و پیار کی باتیں کر کے اسے پھسلانا۔ کہا جاتا ہے۔ غَازَلَ فلانٌ الاربعین من العمر فلاں شخص چالیس برس کی عمر کے قریب پہنچ گیا۔ ھو یغازل رغدا من العیش وہ عیش وعشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ تَغَزَّلَ فلانٌ بتکلف عشق بازی کرنا۔ تَغَازَلَ القومُ ایک دوسرے سے محبت و پیار کی باتیں کرنا۔ الغَزَل (مص): عورتوں سے لہو ولعب — الغَزِل عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں کرنے والا، کوشش میں کمزور۔ الغَزِیل عورتوں سے باتیں کرنے والا۔ الأَغْزَل: غَزِل سے اسم تفضیل۔ — من الحُمّی بار بار آنے والا بخار۔

۳۔ أَغْزَلَت الظبیۃُ ہرنی کا بچے والی ہونا۔ الغَزَال جمع غِزْلَۃ و غِزْلَان (ح) ہرن کا بچہ۔ ہرن الغَزَالۃ: ہرنی۔

۴۔ الغَزَالۃ چڑھنے کے وقت کا سورج غزالۃ الضحی و غزالۃ الضحی چاشت کے وقت کا شروع۔

○ غَزَلَ غَزْلًا کو کاتنا۔ (عورت) سے عشقیہ رویہ اختیار کرنا۔ سے پیار و محبت کرنا، سے عشق بازی کرنا، سے معاشقہ کرنا، سے تفریحاً محبت کرنا، اشعار میں عورت کی تعریف کرنا، غَازَلَ ھا: (عورت) سے محبت کرنا، سے پیار کرنا، سے معاشقہ کرنا، سے تفریحاً محبت کرنا، سے عشق بازی کرنا۔ تَغَزَّلَ ب: (عورت) سے معاشقہ کرنا، سے تفریحاً محبت کرنا، سے محبت کرنا، پیار کرنا، سے عشق بازی کرنا، کو پیار کی نظروں سے دیکھنا۔ — ب او فی: عشقیہ اشعار میں (عورت) کی تعریف کرنا۔ — ب: (کسی چیز کی تعریف) کے پل باندھنا کی تعریف کرنا، کی حمد کرنا۔ تَغَازَلَ ایک دوسرے سے تفریحاً محبت کرنا۔ اِغْتَزَلَ ہ کو کاتنا۔ غَزْل کاتنا (جمع غُزُول): کاتا ہوا دھاگا، سوت۔ مصنع الغزل: کتائی کا کارخانہ غَزَل تفریحاً محبت، عشق بازی، معاشقہ، محبت، پیار کی باتیں، محبت کرنے والوں کی چپکے چپکے پیار کی باتیں کرنا، غزل، عشقیہ شاعری، غَزَّالۃ: مکڑی، مکڑا غَزَالۃ ہرنی چڑھتا سورج، سورج کی ٹکیہ، ابو مغازل بگلا، لقلق۔

غزو ۱۔ غَزَا ـُ غَزْوًا ہ کو طلب کرنا، کا قصد کرنا، کہا جاتا ہے۔ عرفتُ مایُغْزَی من ھذا الکلام: میں نے اس گفتگو کا مقصد و مطلب جان لیا ہے۔ اِغْتَزَی اِغْتِزَاءً فلانًا: کا قصد کرنا۔ — بہ کو دوستوں میں سے چن لینا۔ مخصوص کرنا، خاص کرنا۔ الغِزْوَۃ جس کا قصد کیا جائے جس کو طلب کیا جائے۔ مقصد و مطلب، مراد مَغْزَی الکلام جمع مَغَازٍ مقصد کلام۔

۲۔ غَزَا ـُ غَزْوًا وغَزَاوَۃً وغَزَوَانًا القومَ سے لڑنے کے لئے نکلنا، لوٹ مار کیلئے حملہ کرنا، غَزَّی و اَغْزَی فلانًا: کو لڑائی کے لئے روانہ کرنا یا تیار کرنا اور اس پر برانگیختہ کرنا۔ الغَازِی جمع غُزَاۃ وغُزَّی وغُزِیّ و غُزَّاء م غَازِیۃ جمع غَوازٍ وغازیات: (فا) قدیم مسکوکات کی ایک قسم جو بیس قرش کے مساوی تھی اور عورتیں آرائش کے لئے ان کو اپنے گندھے ہوئے بالوں کے ساتھ لٹکایا کرتی تھیں۔ الغَزَا جمع غَزَوَات: غَزْو کا اسم۔ الغَزْوَۃ جمع غَزَوَات ایک لڑائی، ایک حملہ۔ المَغْزَی جمع مَغَازٍ جنگ کرنا، جنگ کرنے کی جگہ المَغَازِی غازیوں کے مناقب۔ غازیوں کے کارنامے۔ : کتاب المغازی جس میں غازیوں کے مناقب اور کارنامے بیان کئے گئے ہوں۔ اِمْرَاۃٌ مُغْزِیَۃ وہ عورت جس کا خاوند جنگ پر گیا ہو۔

○ غَزَّی و اَغْزَی ہ مقروض کو مہلت دینا۔ اتان

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اوناقة مُغزِية: گدھی یا اونٹنی، جو دیر سے جنے۔

○ غزا ـُ غَزْوًا ہ کی جدوجہد کرنا، کا متمنی ہونا، کی آرزو کرنا، کو چاہنا، کی نیت ہونا، کا ارادہ ہونا۔ غـزا ـُ غَـزْوًا و غَـزَوانًا ہ/ ہ کے خلاف عسکری مہم جوئی کرنا، پر اچانک حملہ کرنا، اچانک ہلہ بولنا، چڑھائی کرنا، جارحیت کرنا، پر حملہ کرنا، دھاوا بولنا، چھاپہ مارنا، حملہ آور ہونا، کو شکست دینا، زیر کرنا، پر فتح پانا، کو فتح کرنا کو لے لینا، پر قابو پانا، غزا السوقَ: مال منڈی میں بڑی تعداد میں پہنچنا۔ غَزْوَة و غَزْو: عسکری مہم، اچانک حملہ، چھاپا، حملہ، جارحیت، فتح، فتح کی مہم۔ غَزَاة جمع غَزَوات: بمعنی غَزْوَة و غَزْو مَغزًى جمع مَغازٍ مطلب مفہوم، معنی، ٹھیک مفہوم، مدعا، نتیجہ، اصول عمل، اہمیت، مَغزیٰ دقیق: گہرا مفہوم ذو مغزی: اہم، معنی خیز۔ مَغـزاة جمع مَغَـاز: عسکری مہم، حملہ، چھاپہ، اچانک حملہ، اچانک ہلہ، المغازی: رسول اللّٰہ کی عسکری مہمیں۔ غازٍ جمع غُـزاة: عسکری مہم جوئی کرنے والا، اچانک ہلہ بولنے والا، حملہ آور، چھاپا مارنے والا، جارح، فاتح، الغازی: غازی غازِیَة جمع غَوازٍ: رقاصہ

غسّ: غَسَّ ـُ غَسًّا فی البلاد: ملک میں گھس جانا۔ ـ ہ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا۔ ـ الکلامَ: کلام میں نقص نکالنا۔ ـ الهرَّ: بلی کو دھتکارنا۔ اِنغَسَّ فی الماء: پانی میں ڈوبنا۔ الغس: کمزور، حقیر۔

○ غُسّ (واحد جمع): بیکار، ناکارہ، فضول۔

غسر: غَسَرَ ـُ غَسْرًا علی الغریم: مقروض پر سختی کرنا۔ تَغسَّرَ الغزلُ: سوت کا لپٹا ہوا اور الجھا ہوا ہونا۔ ـ الامرُ: کام کا پیچیدہ ہونا۔ صفت غَسِرٌ۔ الغَسَر: کوڑا کرکٹ جس کو ہوا تالاب میں لا ڈالے

غسف: أَغْسَفَ: اندھیرے میں داخل ہونا، اندھیرے میں چلنا۔

غسق: ۱۔ غَسَقَ ـِ غَسْقًا و غَسَقًا و غَسَقَانًا اللیلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ ـ غَسقًا و غُسُوقًا و غَسِقَ ـَ غَسَقَانًا العینُ: آنکھ میں آنسوؤں کا ڈبڈبانا، آنکھ کا تاریک ہونا۔ ـ الماءُ: پانی کا گرنا۔ ـ الغیمُ: بادل سے بارش پڑنا۔ اَغسَقَ اللیلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ ـ الرجُلُ: تاریکی میں داخل ہونا۔ الغَسَق: رات کے پہلے حصہ کا اندھیرا۔ الغاسِق (فا): چاند۔ رات جبکہ اس کی تاریکی بڑھ جائے۔ سیاہ سانپ۔

۲۔ الغَسَاق و الغَسّاق: ٹھنڈا، سرد، بدبودار۔

غسل: ۱۔ غَسَلَ ـِ غَسْلًا و غُسْلًا الشیءَ: کو پانی سے پاک کرنا، میل کچیل دور کرنا۔ ـ ہُ: کو تکلیف دہ مار مارنا۔ غَسَّلَ الشیءَ: کو اچھی طرح دھونا۔ اِنغَسَلَ: دُھلنا ـ الشیءُ: بہنا۔ اِغتَسَلَ: نہانا، غسل کرنا ـ بالطیب: خوشبو لگانا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کو پسینہ آنا۔ الغُسْل: غسل۔ ـ: جمع اَغسَال: پانی، اشنان (بوٹی) وغیرہ جن سے دھویا جائے۔ الـغِسـل جمع اَغسال و الغُسلة و الغَسُول: جس چیز سے دھویا جائے جیسے پانی، اشنان (بوٹی) وغیرہ الغُسُل: غَسل کا اسم۔ الغُسالة: دھونے کے قابل کپڑا۔ ـ من الشیءِ: صاف کرنے کا پانی، دھونے سے جو پانی خارج ہو۔ الغاسُول: صابن اور عموماً ہر وہ چیز جس سے دھویا جائے۔ (ن) ایک پودے کا نام جس سے دھوتے ہیں۔ الغَسّال مونث غَسَّالة: نہلانے والا۔ الغَسّالَة: دھوبن الغَسُول: پانی، اشنان (بوٹی) وغیرہ جس سے دھویا جائے۔ ـ (ن): ایک پودا جو باغوں میں اگایا جاتا ہے اور طبی فوائد کا حامل ہے۔ الغسیل جمع غَسْلَی و غُسَلاء م غَسِیلَة جمع غَسَائِل: دھویا ہوا۔ ـ عند العامة: وہ کپڑے جو دھونے کے لئے رکھے گئے ہوں۔ الغِسْلین: کہا جاتا ہے کہ یہ اہل دوزخ کی کھالیں، گوشت اور خون ہیں جو بہیں گے الـمَغسَل و الـمَغسِل جمع مَغَاسِل: دھونے کی جگہ۔ الـمِغسَل: جس سے کوئی چیز دھوئی جائے۔ الـمِغسَلَة الکهربائیة: واشنگ مشین المَغسِلة: کپڑے دھونے کا برتن۔ المُغتَسَل: وہ پانی جس سے نہایا جائے۔ ـ جمع مُغتَسَلات: دھونے کی جگہ، غسل خانہ، لانڈری۔

۲۔ غَسْلَبَ الشیءَ من فلان: کو سے چھین لینا۔

○ غَسَلَ ـِ غَسْلًا ہ/ ہ ب: کو سے دھونا، ـ ہ: کو صاف کرنا (جیسے دانت)۔ ـ ہ من: کو سے پاک کرنا۔ غَسَّلَ ہ/ہ: کو پوری طرح دھونا۔ اِغتَسَلَ: غسل کرنا، نہانا، غُسل جمع اَغسَال: دھونا، وضو، غسل، غِسل: دھونے کا پانی غَسلَة جمع غَسَلات: ایک بار کا دھونا، ایک بار کا وضو غَسِیل: دھویا ہوا۔ (گندے یا دھوئے ہوئے) کپڑے، دھونا۔ غَسول: دھونے کا پانی، دھونے کی چیز، آبی صابن (Detergent) غاسُول: صابن، Lye، غَسَّال: دھونے والا دھوبی، لانڈری والا۔ غَسَّالة جمع غَسَّالات: دھوبن، لانڈری والی۔ واشنگ مشین۔ غُسَالة: گندا (دھونے کا) پانی، گندا پانی۔ مَغسِل و مَغسَل جمع مَغَاسِل: غسل خانہ، دھونے کی جگہ، طہارت خانہ۔ مِغسَل: سلفچی، بیسن، ٹب۔ مَغسَلَة جمع مَغَاسِل: واش سٹینڈ۔ مُغتَسَل: غسل خانہ، کپڑے دھونے کی جگہ۔ طہارت خانہ۔

غسم: غَسَمَ ـُ غَسْمًا و اَغسَمَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا، صفت غَاسِم۔ الغَسَم: سیاہی، تاریکی، خاکستری۔ الغُسمَة و الأغسام: آسمان میں بادل کے ٹکڑے۔

غسن: غَسَنَ ـُ غَسْنًا الشیءَ: کو چبانا۔ غُسانُ القلب و غُسَّانُه: دل کے نہاں خانے، یا انتہائی گوشے، کہا جاتا ہے۔ علمتُ ان ذلک من غُسانِ قلبك۔ یعنی میں نے جان لیا کہ یہ تیرے دل کے نہاں خانے سے نکلا ہے۔ الغَسَّان و الغَیسان: جوانی کی تیزی، کہا جاتا ہے۔ ما انت من غَسَّانه: تو اس کے مقابلہ کا نہیں۔ الغَسَّانی: بہت خوبصورت الغُسْنة و الغُسناة جمع غُسَن و غُسُنات و غُسُنات: بالوں کا گچھا، لٹ۔ الاَغسان: لوگوں کے اخلاق۔

غسو: غَسَا ـُ غَسْوًا و غَسِیَ یَغسَی غَسًی اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ اَغسَی اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ـ هُ اللیلُ: کو رات کا تاریکی کا لبادہ اوڑھانا کو تاریکی میں روپوش کرنا۔ الغَسَاة جمع غَسَوات و غَسًی: کچی کھجور۔

غشّ: غَشَّ ـُ غَشًّا و غَشَّشَ ہُ: کو دھوکا دینا، سے بے ایمانی کرنا۔ اَغَشَّ ہُ: کو خیانت میں ڈالنا، دھوکے میں ڈالنا۔ ـ ہُ عن حاجته: کو اس کی ضرورت سے ہٹانا۔ باز رکھنا۔ اِغتَشَّ و استَغَشَّ الرجُلَ: کو دھوکے باز یا منافق سمجھنا۔ الغِشّ: غَشّ کا اسم، خیانت، فریب، دھوکا، کینہ، کدورت، دل کی سیاہی، ترش روئی۔ الغُشّ جمع غُشّون و الغاشّ جمع غَشَشَة و غُشّاش: دھوکے باز۔

الغَشَش: گدلا پانی۔ الغِشاش و الغَشَاش: تاریکی کا شروع یا آخر۔ قومٌ غَشَّاشَةٌ: دھوکے باز، فریبی لوگ۔ الـمَغشُوش (مفع): ملاوٹی، ملاوٹ والا، ناخالص، کھوٹا، جعلی۔ لبنٌ مَغشُوش: پانی ملا دودھ، ملاوٹ والا ناخالص دودھ۔

○ غَشَّ ـُ غَشًّا ہُ: سے بے ایمانی کرنا، کو دھوکا دینا، بے وقوف بنانا، گمراہ کرنا، سے فریب کرنا، کو جل دینا، کو ٹھگ لینا۔ ـ ہ: کو کھوٹا بنانا، میں ملاوٹ کرنا، کو خراب کرنا، بے اثر کرنا، میں آمیزش کرنا، میں کھوٹ ڈالنا۔ غَشَّشَ ہ: سے بے ایمانی کرنا، کو دھوکا دینا، کو بے وقوف بنانا، کو گمراہ کرنا، کو فریب دینا کو جل دینا، کو ٹھگ لینا، اِنغَشَّ و اِغتَشَّ: دھوکا کھانا، بے وقوف بننا، فریب میں آنا، ٹھگا جانا، اِستَغَشَّ ہ: کو بے ایمان اور فریبی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سمجھنا، پردھوکا یا جعل سازی کا شبہ کرنا۔ غَش: ملاوٹ، بدعنوانی، کھوٹ ڈالنا، دھوکا، دغا، فریب، مکر، چال داؤں۔ غَشّاش: دھوکے باز دغاباز، بےایمان، عیار، فریبی، ٹھگ، دھوکے میں ڈالنے والی، مغالطہ میں ڈالنے والی (چیز، حالت مشکل) پر فریب سراب (امید) مصنوعی نقلی۔ غِش: غداری، بےایمانی، بے وفائی، مکر امی، دھوکا، فریب، دغا، فراڈ، جھوٹ، ٹھگی۔ مَغْشُوش: دھوکہ میں آیا ہوا، فریب خوردہ، بے وقوف بنایا ہوا، فریب زدہ، ٹھگا ہوا، ملاوٹ شدہ، خراب کیا ہوا، کھوٹا، کھوٹ ملا ہوا۔

غشم: ۱۔ غَشَمَ ـُـ غَشْمًا و تَغَشَّمَ هُ: پر ظلم کرنا۔ الغَاشِم و الغَشَّام و الغَشُوم: ظالم، غاصب۔ المَغْشَم: ظالم۔

۲۔ غَشَمَ ـِـ غَشْمًا الحاطبُ: لکڑہارے کا رات کو بغیر تمیز کے لکڑی کاٹنا۔ الغَشِيم م غَشِيمَة عند المحدثين: جاہل جسے کوئی واقفیت نہ ہو۔ المِغْشَم: بہادر جسے کوئی بات اس کے ارادہ سے نہ موڑ سکے۔

۳۔ الغَشِيم (ب): کھردرا یا ناہموار پتھر۔

۴۔ غَشْمَرَ غَشْمَرَةً السيلُ: سیلاب کا آنا۔ تَغَشْمَرَ السيلُ او الجيشُ: سیلاب یا لشکر کا آنا۔

۵۔ غَشْمَرَ غَشْمَرَةً الرجلُ: حق یا باطل میں خود رائے ہونا، اپنی مرضی پر چلنا، اپنے اوپر بھروسہ کرنا۔ ــــ الامرَ: بے سوچے سمجھے کام کرنا۔ ــــ فلانًا: پر ظلم کرنا، تَغَشْمَرَ عليه: پر غضبناک اور ناراض ہونا۔ ــــ فلانًا: کو زبردستی لے لینا، پر ظلم کرنا۔ الغَشْمَرِيَّة: ظلم۔ الغِشْمِير: سختی، شدت۔ کہا جاتا ہے۔ اخذه بالغِشْمِير: اس نے وہ چیز زبردستی لے لی، چھین لی۔

۶۔ الغَشْمَرَة جمع غَشَامِر: آواز

۷۔ الغَشَمْشَم: بہت ظالم، دلیر، بہادر۔ الغَشَمْشَمَة و الغَشَمْشَمِيَّة: جرأت۔

○ غَشَمَ ـِـ غَشْمًا هُ: سے ناانصافی کرنا، سے ظالمانہ سلوک کرنا، پر ظلم کرنا، سے نامنصفانہ سلوک کرنا۔ ــ ھ: میں سوچ سمجھ سے کام نہ لینا۔ تَغَاشَمَ: اپنے آپ کو ناواقف اور ناتجربہ کار بتانا یا ظاہر کرنا۔ اِسْتَغْشَمَ ہ: کو گونگا، بے وقوف، جاہل یا ناتجربہ کار سمجھنا۔ غَشْم: ظلم، زیادتی، بدسلوکی، شدت، غَشُوم: بے انصاف، غیر منصفانہ، ناجائز، جانبدار، غیر منصف، جابرانہ، مستبدانہ، ظالم۔ القُوَّة الغشوم: اندھی طاقت (Brute force) غَشِيم جمع غُشَمَاء: ناتجربہ کار، جاہل، ناواقف، بے وقوف، گونگا، نیا (کسی دفتر میں) اناڑی، فریب خوردہ، کچا، گنوار، اجڈ، غیر مہذبانہ، غیر تعلیم یافتہ، غیر کاریگر، غیر تربیت یافتہ، بے ڈول، بے ڈھنگا، بھونڈا، بھدا، بدوضع، اکھڑ، ناشائستہ، ان گھڑ، غُشُومة: ناتجربہ کاری، حماقت، غَاشِم: غیر منصف، بے انصاف، غیر منصفانہ، ظالمانہ، جابرانہ، ناجائز، غیر عادل، ظالم، جھاگ، تلچھٹ، دھات کا میل، فضلہ۔ قوة غاشمة: اندھی طاقت۔

غشو: ۱۔ غَشَا ـُـ غَشْوًا فلانًا: کے پاس آنا غَشِيَ ـَـ غَشَيَانًا فلانًا: کے پاس آنا۔ الغَشْوَة: غشو کا اسم مرة۔

۲۔ غَشِيَ ـَـ غَشَيَانًا هُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔

۳۔ غَشِيَ ـَـ غَشَاوَةً الامرُ فلانًا: کو ڈھانکنا، کو کافی ہونا۔ ــــ غَشَا الفرسُ و غيرُهُ: گھوڑے وغیرہ کا سر سے سفید ہونا۔ اِسْتَغْشَى ثوبَه و بثوبه: خود کو کپڑے سے ڈھانپ لینا۔ الغِشْوَة و الغِشَاوَة: پردہ، ڈھکنا۔ (بتثلیث غین) غشاوة اللحاف: لحاف پوش۔ الأَغْشَى مونث غَشْوَاء من الخيل و غيرها: سفید بردالا گھوڑا وغیرہ۔

غشي: ۱۔ غَشِيَ ـَـ غَشْيًا و غِشَايَةً الامرُ فلانًا: کو ڈھانکنا، چھپانا، پر آپڑنا۔ ــــ الليلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ــــ الامرأة: عورت سے خلوت کرنا۔ غُشِيَ غَشْيًا و غُشْيًا و غَشَيَانًا عليه: بے ہوش ہو جانا۔ مَغْشِيّ عليه: بے ہوش۔ غَشَّى الشيءَ و على الشيء: کو ڈھانکنا۔ غَشَّيْتُهُ الامرَ: میں نے اس سے بات کو چھپوا دیا۔ میں نے اس سے معاملہ پر پردہ ڈلوا دیا۔ اَغْشَى الامرَ فلانًا: سے کو ڈھکوا دینا۔ ــــ الليلُ: رات کا تاریک ہو جانا۔ الله عليه بصره: اللہ کا کسی کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا۔ تَغَشَّى بثوبه: اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لینا۔ ــــهُ الامرُ: کو کام کا چھپا لینا۔ ــــ المرأةَ: عورت کے پاس جانا۔ اِسْتَغْشَى ثوبَهُ و بثوبه: اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لینا۔ الغِشَاء جمع أَغْشِيَة: پردہ الغِشَايَة و الغُشَايَة و الغُشْيَة: پردہ، ڈھکنا، ڈھکن۔ الغَشْيَة و الغَشْيُ و الغُشِي و الغَشَيَان: غشی، بے ہوشی۔ الغَاشِيَة جمع غَوَاشٍ: غاشی کا مونث۔ پردہ۔ ڈھکنا۔ (ع ا): دل کا پردہ۔ قیامت، مصیبت، ایک اندرونی بیماری، غِشَائيات الأَجْنِحَة (خ): چار پروں والے حشرات جیسے شہد کی مکھیاں، بھڑیں وغیرہ۔

۲۔ غَشِيَ يَغْشَى غَشْيًا و غِشْيَانًا المكانَ: کسی جگہ میں آنا۔ اَغْشَانِي فلانًا: اس نے مجھے فلاں کے پاس جانے پر اکسایا۔ الغِشْيَان: آنا۔ غَاشِيَةُ فلان: [illegible] کے دوست [illegible] کے پاس آتے رہتے ہوں۔

○ غَشَا ـُـ غَشْوًا هُ: کے پاس آنا۔ ھ: کسی جگہ پر آنا غَشِيَ ـَـ غَشَاوَةً هُ/ ھ: کو ڈھانپنا، ڈھکنا، لپیٹنا، چھپانا، کو نقاب اڑھانا۔ ــــ ہ: کے پاس آنا، پر آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، اچانک حملہ کرنا، پر نازل ہونا، پر قابو پانا، کو زیر کرنا، کو گھیرے میں لے لینا، کو کچل دینا۔ ــــ الليلُ: رات کا تاریک ہونا۔ غَشِيَ ــ غَشْيَانًا و غِشْيَانًا ہ: کے پاس آنا ــــ ھ: کسی جگہ پر آنا۔ ــــ ہ / ھ: کو ملنے جانا، کو دیکھنے جانا۔ ــــ ہ: سے ملاقات کو جانا۔ ــــ ها: (عورت) سے ہم بستر ہونا۔ ــــها: نر جانور کا مادہ جانور کو ڈھانپ لینا۔ ــــ ھ: (ظلم) کا ارتکاب کرنا۔ ــــ ھ: (خواہش، طلب) کے آگے جھک جانا۔ غُشِيَ عليه: بے ہوش ہونا، غش کھانا۔ غَشَّى ھ/ہ: بمعنی غشا یغشو ہ/ ھ: نیز ــ ہ/ ھ: پر چادر وغیرہ پھیلانا۔ ــــ ھ: پر کوٹ کرنا، پلستر کرنا، ملمع کرنا، پتر چڑھانا۔ أَغْشَى: (رات کا) تاریک ہونا ــــ ہ/ علی: پر چادر وغیرہ پھیلانا۔ تَغَشَّى ب: اپنے آپ کو سے ڈھانپ لینا۔ اپنے آپ کو میں لپیٹ لینا۔ اِسْتَغْشَى ثيابَهُ: اپنے سر کو اپنے لباس میں چھپا لینا۔ غَشْيٌ و غُشِي: بے ہوشی، غشی، غَشْيَة: غشی۔ غَشْوَة: پردہ، چادر، شال، کھیس، ڈھکنا، سرپوش، آڑ، اوٹ، پوش، پوشش، غِشَاء جمع أغشية: ڈھکنا، سرپوش، پوش، پوشش، چادر، شال، کھیس، ریپر wrapper لپیٹنے کا کاغذ، لپیٹا ہوا کاغذ، لفافہ، کوٹنگ، کوٹ، ملمع کرنا، پتر چڑھانا، جھلی، والو (valve) غِشَاوَة: پردہ، چادر، شال، کھیس، ڈھکنا، پوش، پوشش، غشیان و غِشیان: بے ہوشی، غشی مَغْشَى: وہ جگہ جہاں کوئی آئے، کسی جگہ جانے کا مقصد۔ غَاشِيَة جمع غَوَاشٍ: بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی، حادثہ، مصیبت، آفت، سانحہ، بے ہوشی، غشی، بے حسی، مدہوشی، خدام، خدم و خشم، نوکر چاکر۔

غص: ۱۔ غَصَّ ـُـ غَصَصًا بالطعام و الماء: کھانے یا پانی سے پھندا لگنا۔ صفت غَاصٌّ و غَصَّانٌ ــــ المكانُ بهم: کسی جگہ کا لوگوں سے بھر جانا، تنگ ہو جانا۔ أَغَصَّ هُ: کو پھندا لگوانا، کہا جاتا ہے۔ اَغَصَّ علينا الارضَ: اس نے ہم پر زمین تنگ کر دی۔ اِغْتَصَّ المكانُ بهم: کی وجہ سے کسی جگہ کا تنگ ہو جانا۔ الغُصَّة جمع غُصَص: جس سے پھندا لگے، گلوگیر، اندوہ، غم۔

۲۔ غَصَّ ـُـ غَصًّا الشيءَ: کو کاٹنا۔

○ غَصَّ ـَـ غَصَصًا: گلے میں پھنس جانا، پھندا پڑ جانا، دم گھٹنا، سانس بند ہونا۔ ــــ ب: کچھ کھاتے یا پیتے وقت

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پھندا پڑ جانا یا گلے میں اڑ جانا۔ب: سے ٹھسا
ہونا، بہت بھیڑ والا ہونا، ہجوم سے رک جانا یا بند
ہوجانا، سے کھچا کھچ بھڑا ہونا، کے (گاڑیوں موٹروں
وغیرہ) سے بھرا ہوا ہونا، سے گنجان ہونا، گنجان آباد
ہونا، سے لبالب بھرا ہونا غَصَّ بهم المكانُ: جگہ
لوگوں کی وجہ سے بھری ہوئی تھی ۔اَغَصَّ ہ: کا گلا دبانا،
گھونٹنا، کے گلے میں پھندا لگنے کا باعث ہونا۔
اِغْتَصَّ: بھیڑ یا بھیڑ والا ہونا، ہجوم والا ہونا، گنجان یا
گنجان آباد ہونا، کھچا کھچ بھرا ہونا، لبالب بھرا ہونا، ٹھسا
ہوا ہونا، رکا ہوا یا بند ہونا غُصّة جمع غُصَّات و غُصَص:
جس سے پھندا لگ جائے، گولا، جان لیوا تکلیف،
اذیت، درد، سوحان روح، روحانی اذیت سخت امتحان،
کڑی آزمائش، گلوگیر آواز، دبی ہوئی کراہ غُصَّةُ
الموت: موت کی اذیت۔غاص ب: سے بھرا ہوا،
رکا ہوا، ٹھسا ہوا، کھچا کھچ یا لبالب بھرا ہوا، سے پرہجوم۔

غصب: ا۔غَصَبَ ــ غَصْبًاہ علی الشی: کو پر مجبور
کرنا۔ الشئی: کو زبردستی چھین لینا صفت غاصب جمع
غاصبون و غُصّاب ــــ غَصَبَهُ مالَهُ: اس نے اس
سے اس کا مال چھین لیا غصبت منه ماله: میں نے
اس سے اس کا مال چھین لیا۔المرأة: عورت سے زنا
بالجبر کرنا، کی آبرو لوٹ لینا ــــ غَاصَبَ ہ: ایک
دوسرے سے چھیننا ــ اِغْتَصَبَ الشئَ: کو زبردستی
چھین لینا کو ظلم سے لے لینا۔المراۃ نفسَها: عورت
سے زنا بالجبر کرنا۔الغَصْب: زبردستی چھینی ہوئی چیز۔
٢۔ غَصَبَ۔غَصْبًا الجلد کھال کے بال اور اون دور
کرنا

غَصَبَ ـِ غَصْبًا ہ ہ/من/علی: سے کوئی چیز زبردستی
یا غیر قانونی طور پر لے لینا، سے کوئی چیز (روپیہ،
وعدہ) دھمکی کے ذریعے لینا ــــ ہ: کو لوٹنا ــــ ہ ہ
یا علی یا من سے کوئی چیز لوٹ لینا ــــ ہ: کو غصب
کرنا، پر ناجائز قبضہ کرنا ــــ ہ علی: کو پر مجبور کرنا۔
ها: (عورت) کو اغوا کرنا، کی عصمت دری کرنا ــــ
علی: کو شکست دینا، زیر کرنا، فتح کرنا، کو مغلوب کرنا،
قابو میں کرنا، دبانا، ہلکا کرنا، دھیما کرنا ــ اِغْتَصَبَ:
بمعنی غصب ــ اِغْتَصَبَ ابوابَ البلاد: کسی
ملک میں زبردستی داخل ہوجانا۔غَصْب: زبردستی یا
ناجائز ضبطی، گرفت، قبضہ، غصب، ناجائز من مانی، خود
مختاری، زبردستی جبر، دباؤ، استبداد، مجبوری۔غَصْبًا و
بالغصب: زبردستی۔غصبًا عنه: اس کی مرضی کے
خلاف، اس کی نافرمانی یا حکم عدولی کرتے ہوئے۔
اِغْتِصَاب: زبردستی یا ناجائز ضبطی، گرفت یا قبضہ، جبراً
لینا، استحصال، ڈاکہ، ناجائز تصرف، قبضہ، غصب،
عصمت دری، آبروریزی، زنا بالجبر، زبردستی، مجبوری،
ناجائز من مانی، خود مختاری، جبر، دباؤ، استبداد۔غَاصِب
جمع غَاصِبُون و غُصَّاب: غاصب۔مَغْصُوب: غیر
قانونی طور پر چھینا ہوا۔غصب شدہ، جبراً لیا ہوا،
زبردستی کیا ہوا، مجبور کیا ہوا۔ دباؤ ڈالا ہوا۔
مُغْتَصِب: تشدد آمیز، سخت ظالمانہ، حد سے بڑھا ہوا،
وحشیانہ، بہیمانہ، سفاکانہ، غاصب۔

غصن: ا۔غَصَنَ ــ غَصْنًا الغُصنَ: ٹہنی کو کاٹنا، کھینچنا۔
الشیَ: کو لینا ــ ہُ عن حاجته: کو اس کی حاجت
سے پھیرنا، روکنا، کہا جاتا ہے: ــ ماغَصَنَكَ عنّی:
تجھے کس چیز نے مجھ سے مشغول کیا، کس چیز سے تیری
توجہ مجھ سے ہٹائی غَصَّنَ و أَغْصَنَ ت الشجرةُ:
درخت کا شاخدار ہونا۔الغُصن جمع غُصُون
و أَغصان و غِصَنَة: ٹہنی، شاخ۔الغُصْنَة: شاخ
میں نکلی ہوئی چھوٹی ٹہنی۔
٢۔غَصَّنَ و أَغْصَنَ العنقودُ: خوشہ کا بڑے دانوں والا
ہونا۔
٣۔ثورٌ أغْصَن: بیل جس کی دم میں سفیدی ہو۔

غض: ا۔غَضَّ ـُ غَضًّا و غَضَاضًا و غِضَاضًا و
غَضَاضَةً طرفَهُ ومن طرفه او صوتَهُ ومن
صوته: اپنی نظر یا آواز کو پست کرنا، روکنا۔الغصنَ:
شاخ کو پورا نہ توڑنا کہا جاتا ہے۔غَضَّ بَصَرَهُ: اس
نے اپنی نظر کو ان چیزوں کے دیکھنے سے روکا جن کا
دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں۔غَضَّ طرفَهُ لفلان:
اس نے فلاں کی ناپسندیدہ چیز کو برداشت کیا۔غُضَّ
لی ساعةً: میرے لئے اپنی سواری کو تھوڑی دیر روکے
رکھو اور ٹھہرو۔تَغَاضَضَ عنه: سے غفلت برتنا۔
اِنغَضَّ الطرفُ: نگاہ کا بند ہونا۔الغَضَاض و الغُضاض:
سر کا اگلا حصہ یا چہرے کا بالائی حصہ۔طَرْفٌ غَضِيْضٌ
جمع غِضَاء و اَغِضَّة م غَضِيْضَة جمع غَضَائِض:
پست نگاہ۔
٢۔غَضَّ ـُ غَضًّا و غَضَاضًا و غِضاضًا و غَضَاضَةً
من فلان: کی قدر کو گھٹانا ــ الشئَ: کو کم کرنا۔کہا
جاتا ہے۔لاأَغُضُّك درهمًا: میں تجھے ایک درہم کم
نہ کروں گا۔غَضَّضَ: ذلت و خواری لاحق ہونا۔
الغُضَّة جمع غُضَض و الغَضِيضة و الغَضَاضة جمع
غَضَائِض و المَغَضَّة جمع مَغَاض: ذلت، نقص، کمی
الغضیض جمع غِضَاء و أغِضَّة م غَضِيضَة جمع
غَضَائِض: ناقص، ذلیل۔
٣۔غَضَّ ـِ غَضَاضَةً ضَاضَةً و غُضُوضَةً النباتُ
وغیرُهُ: نباتات کا تروتازہ اور سرسبز ہونا صفت: غَضٌّ
جمع غِضَاض۔غَضَّضَ: تازہ نازک و نرم ہونا، تازہ
چیز کھانا۔الغَضُّ جمع غِضاض: تروتازہ، نرم و نازک،
کہا جاتا ہے۔شبابٌ غَضّ: ترو تازہ جوانی۔
الغَضِیض جمع اَغِضَّاء و اَغِضَّة م غَضِيضَة جمع
غَضَائِض: تروتازہ۔
٤۔غَضْغَضَ الماءَ: پانی کو کم کرنا۔تَغَضْغَضَ الماءُ:
پانی کم ہونا، خشک ہونا۔

غَضَّ ـِ غُضُوضَةً و غضاضةً: تروتازہ ہونا یا ہو
جانا، رس بھرا یا رسیلا ہونا یا ہو جانا، نرم و نازک ہونا یا ہو
جانا۔غَضّ غَضًّا و غَضَاضَةً ہ/من: اپنی
آنکھیں یا نظر کو پاکبازی یا حیا سے نیچی کرنا، جھکا لینا۔
ــ من: کی قدر و قیمت یا وقار کو کم کرنا۔گھٹانا۔کی قدر
گھٹانا، کم کرنا۔غَضَّ طرفَهُ: اپنی نظریں نیچی کرنا۔
غض النظرَ یا الطرف عنه: کو نظر انداز کرنا۔پر
کوئی توجہ نہ دینا۔پر کوئی اعتراض نہ رکھنا، سے چشم پوشی
کرنا۔غَضٌّ: نظر ہٹانا پھیرنا۔غَضَّ النظر (الطرف)
عنه: کو نظر انداز کرنا۔سے چشم پوشی کرنا، سے بے
التفاتی کرنا۔بِغَضِّ النظر عن: سے قطع نظر، کے
باوجود۔غَضّ: تروتازہ رسیلا، رس بھرا، نرم و نازک، گھنا
اور طراوت والا، بہ افراط پیدا ہونے والا (پودا)۔
غُضّة: خامی، کمزوری، نقص، عیب، خرابی، کوتاہی کمی۔
غضیض: تروتازہ، رس بھرا، رسیلا، نرم و نازک۔غضاضة:
تروتازگی، رسیلا پن، نرمی و نزاکت، خامی، کمزوری،
کوتاہی، نقص، عیب، کمی، داغ، دھبا، بے عزتی،
ذلت، رسوائی، فضیحت، شرمندگی۔ما وجد غضاضةً
في: پر کوئی اعتراض نہ کرنا، ناراض نہ ہونا۔غُضُوضَة:
تروتازگی، رسیلا پن، رس بھرا ہونا، نرمی و نزاکت۔

غضب: ا۔غَضِبَ ــ غَضَبًا و مَغْضَبَةً عليه: سے
بغض رکھنا، پر غضبناک ہونا، صفت فاعلی غَضِب و
غَضُب و غَضُوب و غَضْبان مونث غَضْبَی و
غَضُوب و غَضْبَانَة جمع غَضَبَى و غِضَاب و
غَضَابَى و غُضَابَى: صفت مفعولی: مَغْضوب
عليه: کہا جاتا ہے غَضِبَ لفلان: وہ فلاں کی وجہ
سے کسی، دوسرے پر غضبناک ہوا۔غَضِبَ من لا
شئ: وہ بلاوجہ غصہ ہوا۔غَاضَبَ مُغَاضَبَةً ہُ: کو غصہ
کرنے پر بھڑکانا ــــ فلانًا: سے غصہ سے علیحدگی
اختیار کرنا۔غَاضَبْتُهُ: اس نے مجھے ناراض کیا میں
نے اس کو ناراض کیا۔اَغْضَبَهُ: کو غصہ دلانا۔تَغَضَّبَ
و اِسْتَغْضَبَ عليه: پر غضبناک ہونا۔الغَضْبَة: غضب
کا اسم مرة۔الغُضَابِيّ: بدمزہ زندگی بسر کرنے والا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الغُضْب و الغُضُبَّة و الغَضُبَّة: غضبناک
۲۔اِغْضَبَّت العینُ: آنکھ کا اپنا تنکا وغیرہ نکال ڈالنا۔
الغِضَاب و الغُضاب: آنکھ کا تنکا۔
۳۔الغَضْبَة: مچھلی کی کھال، سر کی کھال۔
○ غَضِبَ ـَ غضبًا س علی: پر ناراض ہونا، غصہ ہونا، سے خفا ہونا، بگڑا ہوا ہونا، پر جھنجھلایا ہوا ہونا، پر پریشان ہونا، سے تنگ ہونا، پر برافروختہ ہونا، پر بھڑکا ہوا ہونا، مشتعل ہونا، پر طیش میں ہونا ـــ ل: کا دفاع کرنا، کے لئے جدوجہد کرنا۔غاضَبَ ہٗ: سے بگڑا ہوا ہونا، سے برے تعلقات ہونا۔اَغْضَبَ ہٗ: کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، دق کرنا، مشتعل کرنا، ناراض کرنا، کو غصہ دلانا، طیش میں لانا۔تَغَضَّبَ بمعنی غَضِبَ۔ ـــ غَضَب سخت غصہ، غضب طیش، قہر، غیظ، غصہ، اشتعال، برہمی، عصبہ بدمزاجی کا غلبہ، غصہ کی لہر، ناراضگی کا اظہار، عصوب زود، رنج، چڑچڑا، تنگ مزاج، جلد غصے میں آجانے والا۔غَضْبًا ل: کی حفاظت کیلئے۔

غضر: ا۔غَضَر ـِ غَضْرًا ہٗ اللّٰہُ: کو اللہ تعالیٰ کا خوشحال و آسودہ کرنا ـــ ـِ غَضْرًا لغلان من مالہ: کو اپنے مال میں سے کچھ دینا ـــ علیہ: کی طرف مائل ہونا۔غَضِرَ ـَ غَضَرًا و غَضارَةً: آسودہ حال و مال دار ہونا، عمدہ زندگی والا ہونا صفت: غَضِر۔اِغْتَضِرَ: جوان مرنا۔الغَضَار: خالص چپکنے والی مٹی، چکنی مٹی کا بنا ہوا پیالہ۔سبز رنگ کی ٹھیکری جو نظر بد سے بچاؤ کے لئے رکھتے ہیں۔الغَضارَة (مص): جمع غَضائِر نعمت عمدہ زندگی، فراخی و خوشحالی، خالص مٹی، نظر بد سے بچاؤ کیلئے سبز ٹھیکری۔الغضراء من الاراضی جمع غَضارِیّ: زرخیز، عمدہ زمین، خالص مٹی کی زمین، قطاة: پرندہ کو بھی غضراء کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ ھم فی غضراء من العیش: وہ آسودہ حالی میں ہیں۔الغَضِیْرُ: نرم و نازک، سبز رنگ والا۔ارضٌ غَضِیْرَة: خالص مٹی والی زمین۔المُغْضِر جمع مُغْضِرون و المَغْضُور جمع مغضورون و مغاضیر: صاحب نعمت و خوشحالی و آسودہ حال۔
۲۔غَضَر ـُ غَضْرًا الرجُلَ: کو روکنا، منع کرنا ـــ الشیءَ: کو کاٹنا ـــ ـِ غَضْرًا و تَغَضَّرَ عنه: سے ہٹنا، پھرنا۔الغاضِر (فا) م غاضِرة: مانع، روکنے والا۔
۳۔الغاضِر م غاضِرة: عمدہ رنگی ہوئی کھال۔اپنی ضروریات کیلئے صبح سویرے جانے والا۔الغَضارَة جمع غَضائر: بڑا پیالہ۔

۴۔الغُضْرُوف: غُرضوف کے تمام معانی کے ساتھ دیکھو غُرضوف۔
○ غَضَر ـِ غَضْرًا عن: سے پھرنا، ہٹنا ـــ علی: کا مخالف ہو جانا یا کا رخ کرنا۔غَضِرَ ـَ غَضَرًا: امیر ہونا یا ہو جانا، وافر، فراواں، کثیر یا بہت ہونا یا ہو جانا، بہت امیر ہونا یا ہو جانا، گھنا اور طراوت والا ہونا یا ہو جانا، باافراط پیدا ہونے والا ہونا یا ہو جانا۔غَضِر: وافر، فراوان، کثیر، بہت، رئیس، بہت امیر، گھنا اور طراوت والا، باافراط پیدا ہونے والا۔غَضِیر: ترو تازہ، سبز (پودا)۔غَضارَة: تروتازگی، افراط، فروغ، امارت، دولتمندی، تمول، غضروف جمع غضاریف: چینی ہڈی، مرمری ہڈی، کری ہڈی۔

غضف: ا۔غَضَفَ ـِ غَضْفًا العودَ: لکڑی توڑنا ـــ الکلبُ اُذنَه: کتے کا اپنے کانوں کو ڈھیلا کرنا ـــ الوسادَةَ: تکیہ موڑنا۔غَضِفَ ـَ غَضَفًا ت الاذنُ: کان کا پیدائشی ڈھیلا ہونا۔صفت غَضْفاء جمع غُضْف۔غَضَّفَ الشیءَ: کو لٹکانا۔تَغَضَّفَ ت الجاریةُ: لڑکی کا مٹک مٹک کر ناز و انداز سے چلنا ـــ ت الحیّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا ـــ ت البئرُ: کنویں کا گرنا ـــ ت اُذنُه: کے کان کا ٹوٹنا۔الغاضِف: وہ کتا جس کے کان کا بلند حصہ آگے کو جھکا ہوا ہو۔الأَغْضَف م غَضْفاء جمع غُضْف: ڈھیلے کان کا کتا۔
۲۔غَضَفَ ـِ غُضُوفًا: آسودہ حال ہونا۔غَضِفَ ـَ غَضَفًا العیشُ: زندگی کا خوشگوار ہونا صفت: اَغْضَف و غاضِف۔تَغَضَّفَت الدنیا علیه: دنیا کا کی طرف رخ کئے ہوئے ہونا اور دولت کا اس پر کرم فرما ہونا۔الغاضِف (فا): آسودہ حال خوش عیش۔عیشٌ اَغْضَف م غَضْفاء جمع غُضْف: عیش و عشرت کی زندگی، خوشحالی اور آسودگی کی زندگی۔
۳۔غَضِفَ ـَ غَضَفًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔اَغْضَفَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا ـــ السحابُ: بادل کا نمودار ہونا، جس سے پتہ چلتا ہو کہ بارش ہوگی۔تَغَضَّفَ علیه اللیلُ: کو رات کا آنا۔تَغَضَّفَ الضبابُ: کہر کا تہ بتہ ہونا۔القومُ فی الغبار: لوگوں کا گرد و غبار کی لپیٹ میں آنا۔الأَغْضَف م غَضْفاء جمع غُضْف: تاریک رات، موٹے پروں کا تیر۔الغَضَفَة (ح): قطاة سے مشابہ ایک پرندہ۔
غضن: ا۔غَضَنَ ـِ غَضْنًا ہٗ عن کذا: کو سے روکنا، منع کرنا۔
۲۔غَضَنَ ـُ غُضُنَتِ الناقةُ: اونٹنی کا کچا بچہ گرانا۔اسم [illegible]

الغَضِین: اونٹنی کا گرایا ہوا کچا بچہ۔
۳۔غَضَّنَ ت السماءُ: آسمان کا لگاتار بارش برسانا۔اَغْضَنَ علیه اللیلُ: پر رات کا تاریک ہونا ـــ السحابُ: بادل کا لگاتار برسنا۔ـ ت علیه الحُمّیٰ: کا بخار تیز ہونا اور چڑھا رہنا۔
۴۔غَضَّنَ الشیءَ: کو موڑنا، میں شکن اور سلوٹیں ڈالنا۔غاضَنَ مُغاضَنةً عینَهٗ: آنکھ کو جھپکانا ـــ المرأةَ: آنکھ جھپکا کر عورت سے باتیں کرنا۔تَغَضَّنَ: مڑنا، شکن دار اور سلوٹ دار ہونا۔الغَضْن و الغَضَن جمع غُضون: کھال، زرہ یا کپڑے وغیرہ کی شکن و سلوٹ، تھکن، سختی، مشکل۔غَضْنُ العَیْن: آنکھ کی ظاہری کھال۔غُضُون الاذن: کان کی سلوٹیں کہا جاتا ہے رجلٌ ذو غُضُونٍ: سلوٹوں والی پیشانی والا آدمی کان الامرُ فی غُضُونِ ذلک: معاملہ اسی اثناء میں ہوا۔الغَضْنَة و الغَضَنَة (طب): چیچک کے داغ پر آنے والا باریک چھلکا۔الأَغْضَن: جھکی ہوئی آنکھ والا۔
۵۔الغَضَنْفَر (ح): شیر، بھاری جسم والا۔
○ غَضَّنَ ہٗ: پر جھریاں ڈالنا، شکن ڈالنا، کو سکیڑنا، سکوڑنا، چرمر کرنا، تہ کرنا، میں سلوٹ یا شکن ڈالنا۔غاضَنَ ھا: عورت کو بری نیت سے آنکھ مارنا۔تَغَضَّنَ: جھریاں پڑنا، شکن پڑنا، سکڑنا، چرمر ہو جانا، سلوٹیں اور شکنیں پڑ جانا، جھریوں والا ہونا یا ہو جانا، سلوٹ یا شکن والا ہونا یا ہو جانا، تہہ بتہ ہونا، جھری، شکن یا سلوٹ دار ہونا یا ہو جانا۔غَضْن و غَضَن جمع غُضون: جھری، تہ، سلوٹ، شکن، مصیبت مشقت سختی مشکل۔فی غضون: کے دوران، کے اثناء میں، کے اندر اندر، کے اندر۔فی غضون ذلک: دریں اثناء، اس دوران میں، اس اثناء میں۔

غضو: غَضا ـُ غَضْوًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا ـــ البعیرُ: اونٹ کا درخت غضا چرنا، صفت: غاضٍ ـــ غُضُوًّا: نعمت و خوشحالی میں ہونا۔صفت غاضٍ مونث غاضِیة جمع غَواض۔

غضی: ا۔غَضِیَ ـَ غَضًی البعیرُ: درخت غضا چرنے سے اونٹ کے پیٹ میں درد ہونا صفت غَضٍ مونث غَضِیَة جمع غَضایا ـــ ت الارضُ: زمین کا درخت غضا کی بہتات والا ہونا۔الغَضا جس کا واحد غضاة ہے (ن) جھاؤ کا درخت، جھاڑی۔اھلُ الغضا: نجد کے رہنے والے۔ذئب الغضا: خباثت اور دھوکے بازی کی مثل۔الغاضِیَة جمع غَواض: تاریک، روشن (ضد) کہا جاتا ہے۔نارٌ غاضِیَةٌ: روشن آگ، آگ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الغَضْياء: جھاڑ کے درخت اگنے کی جگہ۔ ارضٌ غَضْياء: بہت جھاؤ کے درختوں والی زمین۔

۲۔ اَغْـضـی اِغْضَاءً الليلُ: رات کا تاریک ہونا۔صفت غـاضٍ: (خلاف قیاس) ـــــ عينَـهُ: آنکھ بند کرنا۔ موندنا۔ ـ علي الامر: پرخاموش رہنااورصبر کرنا۔کہا جاتا ہے۔ أَغْـضَی عنه طرفَهُ: سے نگاہ پھیر لی۔کہا جاتا ہے۔ أغضی علي القذی: پرصبر کر کے معاف کر دینا کونظر انداز کر دینا، سے عمدا احتراز کرنا۔ تَغَاضَی: آنکھیں بند کرنا۔ ـ عنه: سے غفلت برتنا۔ العاضِية جمع غَوَاضٍ: غاضی کا مونث تاریک، روشن (ضد)۔کہاجاتا ہے۔ ليلةٌ غاضِيَةٌ یعنی تاریک رات

○ اَغْضَی: اپنی آنکھ بند کرلینا۔ ـــعَيْنَه: اپنی آنکھیں بند کرلینا۔ ـ ہ / عن: کونظر انداز کر دینا،کو دیکھنے سے گریز کرنا، پر التفات نہ کرنا، کی پرواہ نہ کرنا، کا لحاظ نہ کرنا،کو معاف کرنا، پر آنکھیں بند کرلینا،کو نہ دیکھنا۔ ـعن: سے نرمی کا برتاؤ کرنا، پر شفقت کرنا، کرم کرنا کو برداشت کرنا، سے چشم پوشی کرنا، اغماض کرنا، تَغَاضی عـــن: کونظر انداز کرنا، ظاہر کرنا کہ اس نے ـ کو نہیں دیکھا۔ تَـغَاضـی عنه بمعني اَغضی عنه: ظاہر کرنا کہ اس نے اسے نہیں دیکھا۔ عَـلَـی احرِّمِـن جمر الغضیٰ: ناقابل برداشت صورت حال میں ہونا، سخت مضطرب لفظی ترجمہ، جھاڑ کے انگاروں سے زیادہ گرم جگہ پر۔

غطّ: غَـطَّ ـُ غَطًّا الشئَ فِي الماء: کو پانی میں ڈبونا، غوطہ دینا۔ ـــــ ـُ غَطَّاهُ: کوزور سے نچوڑنا۔ اَغَطَّ الشئَ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا،غوطہ دینا۔ تَغَاطَ الرجلان في الماء: ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دینا

۲۔ غَـطَّ ـِ غَطِيطًا النائمُ: سونے والے کا خراٹے لینا۔ ـالبعيرُ: اونٹ کا بلبلانا۔

۳۔ الـغَـطَاط واحد غَـطاطة (ح): قطا پرندے کی ایک قسم۔ ـالغُطاط: صبح کا ابتدائی حصہ۔ اُغُطَيْطَة: کہر (عام زبان میں)۔

۴۔ غَطْغَطَ غَطْغَطَةً ت القِدرُ: ہانڈی کا بہت ابلنا۔ ـ البـحرُ: سمندر کی موجوں کا بلند اور شدید ہونا۔ ـــــ النـومُ عـلـی فلانٍ: پر نیند کا غلبہ ہونا۔ تَـغَـطْـغَطَ البـحرُ: سمندر کی موجوں کا بلند اور شدید ہونا۔ ـــــ الشئُ: بکھرنا، متفرق ہونا۔ الغَطْغَطَة (مص): بھٹ تیتر کی آواز کی نقل کرنا۔ الـغطَاغِط: واحد غُطْغُط (ح): بکری کے مادہ بچے۔

○ غَـطَّ ـُ غَطًّاہ / ہ فی: کو میں ڈبونا، ڈوبادینا،کو میں یکا یک گھسیڑنا، غَـطَّ ـِ غَطِيطًا: خراٹے لینا۔ اَغَطَّ ہ / ہ فی: کو میں ڈبونا، ڈوبادینا، گھسیڑنا۔ اِنْـغَـط فـــی: میں ڈوبنا، ڈوبادیا جانا، یکا یک گھسیڑا جانا۔ غَطِيط: خراٹے، خراٹے لینا غُـطَيْـطَة: کہر، کہرا، سخت دھند، دھند

غطر: ا۔ غَطْرَس غَطْرَسَةً علي فلان: کے سامنے تکبر کرنا۔ ـــ الرجلُ: اپنے ہم عصروں پر دست درازی کرنا۔ ـــــ بـالشيء: پر خوش ہونا، تعجب کرنا۔ ـــــ تَغَطْرَسَ: اترانا، متکبرانہ انداز سے چلنا۔ الغِطْرِسِ جمع عـطارسِ والغِطْرِيس ج عَـطَارِيس: متکبر، خود پسند۔

۲۔ غَـطْـرَسَ غَطْرَسَةَ ہ: کو غضبناک کرنا تَـغَطْرَس: غضبناک ہونا۔

۳۔ تَغطْرَسَ: بخل کرنا۔

۴۔ غَطْرَش الليلُ بصَرهُ: رات کا آنکھ کو تاریک کر دینا۔ ـ بصرُهُ: آنکھ کا تاریک ہونا۔

۵۔ تَغَطْرَفَ: متکبرانہ چال چلنا، تکبر کرنا الغَطْرَفة: تکبر۔ الغِطراف و الغِطْرِيف جمع غَطَارِفة وغَطَارِيف: خوش طبع جوان، سخی، سردار خوب صورت، دولتمند، الغِطْرَوف و الغِطْرُوف: خوش طبع جوان۔خوبصورت

۶۔ الـغِـطْرِيف جمع غَـطَارِيف (ح): باز کا بچہ۔ (ح): مکھی۔

○ غَـطْـرَسَ: مغرور، متکبر، خود پسند، نخوست پسند نک چڑھا، اپنی مرضی کے تابع کرنے والا، امارت پرست، پرغرور یا خود بین و برخود غلط ہونا۔ تَـغَـطْـرَسَ بمعنی غَطْرَس۔ تَغَطْرَسَ فی مِشْيَتِهِ: اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، اینٹھ کر چلنا، مغرور رویے یا وطیرے کا مظاہرہ کرنا۔ غَطْرَسَة: غرور، تکبر، خود پسندی، خود بینی، اکڑ، گستاخی، بے شرمی، بے حیائی، امارت پرستی غِطْرِيس جمع غَطَارِيس: مغرور، متکبر، اکڑفوں، اپنی مرضی کے تابع کرنے والا، نک چڑھا، امارت پرست سا، خود پسند، پرغرور، برخود غلط، خود بین۔ مُتَـغَـطْـرِس بمعنی غِطرِيس۔ غِطرِيف جمع غَطَارِيف وغَطَارِف وغَـطَـارِفة: طاقتور حکمران، نواب، راجا، شریف عظیم اور مشہور شخص۔

غطس: غَطَسَ ـِ غَطْسًا فی الماء: پانی میں ڈوبنا۔ ـ فی الاناء: برتن پر منہ لگا کر پینا۔ ـــ ہُ فی الماء: کو پانی میں غوطہ دینا غَـطَّـسَ ہُ فـی الماء: کو پانی میں غوطہ دینا ـــ تَـغَـاطَسَ الـقومُ فی الماء: ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دینا۔ ـــ الرجُلُ: غفلت برتنا الغَاطِس (فا) ليلٌ غَاطِسٌ: تاریک رات الغَاطِسَة جمع غَـوَاطِـسِ: غَاطِس کا مونث الـغِطَاس عند الـنـصــارى: نصرانیوں کی ایک عید، عید ظہور الٰہی۔ الـغَـطَّـاس پانی کی گہرائی میں غوطہ لگانے والا۔ اسے غَـــوَّاص بھی کہتے ہیں۔ (ح) غوطہ خور پرندہ۔ الـغُـطُـوس لڑائیوں میں پیش قدمی کرنے والا۔ التَغْطِيس (مص) عند المسيحيين: بپتسمہ دینے کی ایک قسم۔ باقی دو قسمیں الشَـكْـب اور الـرش کہلاتی ہیں۔ الـمَـغْـطِـس: غوطہ لگانے کی جگہ۔ المُغْطَسَ جمع مَغَاطِس: غوطہ دینے کا ایک بڑا برتن۔

○ غَـطَسَ ہ / ہ فی: کو پانی میں ڈوبادینا کو اچانک پانی میں گھسیڑ دینا، کو پانی میں ڈبونا۔ ـفی: پانی میں ڈبکی لگانا، غوطہ مارنا، یکا یک کود پڑنا یا چھلانگ لگانا، غوطہ لگانا، ڈوبا ہوا ہونا، ڈوبنا۔ غرقاب یا غرق ہونا، زیر آب ہونا۔ غَـطَّـس ہ / ہ فی: کو پانی میں ڈبکی دینا، غوطہ دینا، ڈبونا۔ ـ ہ: کو بپتسمہ دینا، اصطباغ دینا۔ تَغَطَّس: غوطہ لگانا۔ ـــــ فی: میں نہانا غِطَاس: اصطباغ۔ الغِطاس: نصاری کی ایک عید الـمَغْطِس: بھی کہتے ہیں۔ غَطَّاس: غوطہ خور (آدمی یا پرندہ) مَغْطِس جمع مَغَـاطِـس: نہانے کا ٹب (Bath-tub) پانی میں چھلانگ لگا کر نہانا۔ (Plunge bath) تغطیس: ڈبا دینا، پانی میں یکا یک گھسیڑنا۔ ڈبونا، بپتسمہ، اصطباغ۔

غَطُش: ا۔ غَـطَـشَ ـِ غَطْشًا الليلُ: رات کا تاریک ہونا، صفت۔ غَـاطِـش واَغْـطَـش، غَطِشَ ـَ غَطَشًا: کمزور نظر والا ہونا۔ دھندلی نظر والا ہونا صفت اَغْـطَــش و غَـطِــش م غَطْشَـاء وغَطِشَة جمع غُـطْـش و غَـطِشَـات أَغْـطَـشَ الليلُ: رات کا تاریک ہونا ـــ اللّٰهُ الليلُ: اللہ تعالیٰ کا رات کو تاریک کرنا۔ تَغَطَّشَ ت عينهُ: کی نگاہ کمزور ہونا۔ تَغَاطَشَ عـنه: سے جان بوجھ کر اندھا یا غافل بننا۔ اِغْـطَاشَّ: کمزور نظر والا ہونا الـغَـطَـش فـي العين: سیلان اشک کے ساتھ نظر کی کمزوری۔ الـغُـطـاش: رات کی تاریکی ليلةٌ غَطْشَاء: تاریک رات۔ فلاة غَطْشَاء و غَـطِيشٌ و غَطُشَی: بے راستہ اور بے آب ریگستان کہا جاتا ہے: ركبنا فلاةً غُطْشَی و نحن كرمالها عَـطْشَـي: ہم ایک بے راستہ اور بے آب ریگستان میں گئے۔ ہم اس ریگستان کی ریت کی طرح پیاسے تھے۔

۲۔ غَـطَشَ ـِ غَطْشًا و غَطَشَانًا: کسی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا۔

○ غَطَش: دھندلی نظر

غطف: ا۔ غَـطِفَ ـــ َغَطَفًا: پلکوں کا دراز ہونا اور مڑ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جاناصفت اَغْطَف مونث غطفاء جمع غُطف۔
الغَطَف (مص): زندگی کی آسودگی وفراخی۔الأغطف من العیش: آسودہ زندگی۔

غطم: ا۔الغِطَمّ: بڑا سمندر، وسیع الاخلاق آدمی۔بڑا جمگھٹا۔
۲۔غَطْمَطَ البحرُ: سمندر کا بڑی بڑی موجوں والا ہونا۔ــ ت القدرُ: ہانڈی کا ابلنا۔ــــ السیلُ: سیلاب کا نیچے گرتے وقت آواز پیدا کرنا تغَطْمَطَ البحرُ: سمندر کا بہت زوروں کا ہونا اور اس کی موجوں کا بلند ہونا۔ــ الصوتُ: آواز کا بیٹھ جانا۔بحرٌ غامِطٌ: بلند موجوں والا سمندر۔
۳۔الغَطْمَطم: بڑا سمندر

غطو: غَطَا ـُ غَطْوًا و غُطُوًّا الشیءَ: چیز کو چھپانا، ڈھانکنا۔ــ الماءُ و غیرُہُ: پانی وغیرہ کا بلند ہونا۔ــ اللیلُ: رات کی تاریکی کا ہر چیز کو چھپالینا۔غطّی تَغْطِیَۃً الشیءَ: کو چھپانا، ڈھانکنا۔اَغْطی اِغْطاءً الشیءَ: کو چھپانا، ڈھانکنا۔ــــ الکرمُ: انگور کی بیل میں پانی جاری ہونا اور اس کی شاخوں کا دراز ہونا۔ تَغَطّی واغتَطی: چھپنا۔الغِطاءُ جمع اَغْطِیَۃ: پردہ۔ ڈھکن۔الغِطایَۃ: عورت کی کرتی، بنیان۔

غطی: غَطی۔غَطْیًا و غُطِیًّا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ــــ الشیءَ و علی الشیء: کو چھپانا، کے اوپر ہونا۔ــــ الشبابُ: جوانی کا ابھرنا، بھرپور ہونا۔ــــ الماءُ: پانی کا بہت ہونا۔صفت غاطٍ۔ــ الشجرُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔اَغْطی ہُ: کو چھپانا۔ الشجرُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔الغاطِیَۃ غاطی کا مونث، انگوری بیل۔

○ غطا۔ غَطْوًا ہ: کو ڈھانپنا، ڈھانکنا، کو چھپانا، کو اوپر ڈالنا۔غَطّی ہ/ ہ ب: کو سے ڈھانپنا، ڈھانکنا، کو سے چھپانا، کو سے لپیٹنا۔ــــ ہ ب: کسی چیز پر کسی اور چیز کا سرک آنا، کو سے ڈھانکنا، ڈھانپناــــ ہ: اخراجات وغیرہ کے لئے کافی ہوناــــ علی: کو ماند کرنا، سے کہیں زیادہ روشن ہونا، سے بازی لیجانا، کو تاریک کرنا، کو مبہم بنانا، (شور وغیرہ کا) آواز کو دبالینا، سے زیادہ مضبوط وقوی ہونا، سے زیادہ فیصلہ کن ہونا۔تَغَطّی ب: سے ڈھکا ہونا، ڈھانپا ہونا، سے لپٹا ہونا، سے چھپا ہونا، سے اپنے آپ کو ڈھانپنا، میں اپنے آپ کو لپیٹنا، سے اپنے آپ کو چھپانا، سے پردہ کرنا۔اِغتَطی: بمعنی تَغَطّی۔غطاء جمع اَغْطِیَۃ: ڈھکنا، سرپوش، پوش، پوشش، چادر، شال، کھیس، وغیرہ ریپر، لپٹا ہوا کاغذ Wrapper لپیٹنے کا کاغذ Wrapping، لفافہ، لباس
تَغْطِیۃ: (اخراجات وغیرہ کیلئے) کافی ہونا، نوٹوں کی کوریج Note Coverege

غفق: ا۔غَفَقَّ الطائرُ (عند العامۃ): پرندہ کا گر پڑنا (سریانی لفظ ہے)
۲۔تَغَفَّقَت الدابّۃُ: جانور کا موسم کے چارہ پر پہنچنا۔ــ الاناءَ او الضرعَ: برتن یا تھن کے باقیماندہ کو لینا۔ اِغْتَفَّ ت الدابّۃُ: جانور کا موسم بہار کے چارہ کو پہنچنا، چارہ کھانا۔ــــ فلانًا: کو کچھ دے دینا۔الغَفّ: سوکھے پتے۔الغُفَّۃ: اونٹ کا جلدی میں کھایا جانا والا چارہ۔ آسودہ زندگی، خوراک کی کفایت۔غُفَّۃُ الاناءِ او الضرعِ: برتن یا تھن میں بچی ہوئی چیز یا دودھ

○ غَفَّ۔ غَفًّا: بےخبری میں جالینا۔ــــ علی: کو پکڑنا، زبردستی لینا۔

غفر: ا۔غَفَرَ ـِ غَفْرًا و غَفیرًا و غَفیرَۃً و غُفرانًا و مَغْفِرَۃً و غُفُورًا لہ الذنبَ: کا گناہ چھپانا، معاف کرنا۔الامرَ: کام یا بات کی اصلاح کرنا۔ــــ غَفْرًا الشیءَ: کو چھپانا۔ــــ الشیبَ بالخضاب: بالوں کی سفیدی کو خضاب سے چھپانا۔غَفَّرَ الشیءَ: کو ڈھانکنا، کو چھپانا۔الرجلَ: کو غفر اللہ کہنا۔اَغْفَرَہٗ: کو چھپایا۔تَغَافَرُوا: ایک دوسرے کی مغفرت کی دعا کرنا۔اِغْتَفَرَ اللہُ ذنبَہٗ: اللہ کا کسی کا گناہ بخشنا۔ اِستَغْفَرَ اللہَ الذنبَ و مِنَ الذنب: اللہ تعالیٰ سے گناہ کی بخشش مانگنا۔الغُفرَۃ: ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو چھپائیں کہا جاتا ہے۔غَفَرَ الشیءَ بغُفْرَتِہٖ: اس نے چیز کی اس چیز سے اصلاح کی جس سے اصلاح کرنی چاہیے تھی۔الغِفارَۃ: ایک قسم کا خود جو سپاہی کلاہ کے نیچے پہنا کرتا ہے۔ٹکڑا جس سے کمان کے گوشہ کو لپیٹتے ہیں۔عورت کے بال چھپانے کی اوڑھنی، ہر وہ شے جس سے کسی دوسری چیز کو چھپائیں الغِفّارۃ: وسیع چادر یا جبہ جس کو احبار یہود اور پادری پہنتے ہیں۔ الغَفُورُ: مذکر و مونث کیلئے الغَفّار م غَفّارَۃ: بہت مغفرت کرنے والا۔ بہت بخشنے والا (اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں) اور معنی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کا پردہ پوشی کرنے والا اور ان کی غلطیوں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا۔الغَفیر (مص): کہا جاتا۔جاؤ واجَمًّا غَفیرًا و جمَّ الغفیر والجمُّ الغفیرُ: وہ سب (شریف اور رذیل) آئے۔الغَفیرَۃ (مص): اصلاح کا ذریعہ، کثرت، زیادتی۔المَغْفَرُ و المِغْفَرۃ جمع مَغافِر: خود
۲۔غَفِرَ ـَ وغَفَرَ۔غَفَرًا المریضُ: بیمار کا گئی ہوئی بیماری میں مبتلا ہونا [illegible] جانا۔غُفِرَ المریضُ: بیمار کا گئی ہوئی بیماری میں پھر مبتلا ہوجانا
۳۔غَفِرَ۔غَفَرًا و اِغْفارًا الثوبُ: کپڑے کا روئیں دار ہونا۔الغَفَر: کپڑے کا رواں۔ــــ و الغُفار: گردن، رخساروں اور گدی پر ہونے والے بال، جو روئیں دار ہوں۔الغَفَر بمعنی غَفْر: چھوٹی چھوٹی گھاس۔ الغَفِر: روئیں دار، کہا جاتا ہے۔رجلٌ غَفِرُ القفا وامراۃٌ غَفِرَۃُ الوجہ: یعنی مرد جس کی گدی پر اور عورت جس کے چہرے پر روئیں دار بال ہوں۔الغَفیر (مص): سبزہ کے بال۔
۴۔اَغْفَرَ الرِمْثُ: کڑوے پودے کا گوند نکالنا۔تَغَفَّرَ: درختوں سے گوند جمع کرنا۔المِغْفَر والمُغْفُر و المُغْفُور جمع مَغافِر و مَغافیر: درخت سے بہنے والا گوند۔
۵۔الغَفْر (فلک): تین چھوٹے ستارے۔ــــ و الغُفْر جمع غِفَرۃ و اَغْفار و غُفُور (ح): پہاڑی بکری کا بچہ۔ الغِفْر (ح): گائے کا بچہ۔الغِفار: رخسارہ پر نشان۔ المُغْفِرۃ (ح): پہاڑی بکری جو بچہ والی ہو۔

○ غَفَرَ ــِ غَفْرًا و مَغْفِرَۃً و غُفرانًا ل ہ: کو کچھ معاف کردینا، بخش دینا۔ــ ہ ل: کو کی معافی دینا۔ــ ہ: کو بخشنا، کم کرنا لا یُغْفَر: ناقابل معافی، ناقابل عفو۔اِغْتَفَر ل ہ: کو کچھ معاف کردینا، بخش دینا۔ــ ل ہ: کو کی معافی دیناــــ ہ: کو بخش دینا، کم کرنا۔ لا یُغتَفَر: ناقابل معافی، ناقابل عفو۔اِستَغْفَر ہ ل/ من/ ہ: (گناہ وغیرہ) کے لئے کسی سے معافی طلب کرنا)، سے درخواست کرنا کہ وہ (گناہ غلطی وغیرہ) معاف کردے، سے کیلئے معذرت کرنا، عذرخواہی کرنا۔ أستغفرُ اللہ: میں اللہ سے معافی/بخشش طلب کرتا ہوں، (مختلف مواقع پر کہا جاتا ہے۔ خصوصاً تعریف، داد و تحسین پر، کو شرافت وانکسار سے مسترد کرتے ہوئے گویا یہ کہنا: مہربانی کرکے ایسا نہ کہئے یا بالکل نہیں)غَفْر: معافی، بخشش، عفو ودرگزر غُفْرانًا: مجھے معاف کردیں، میں آپ سے معافی کا طالب ہوں۔غَفُور: معاف کرنے پر بخوشی مائل، بہت معاف کرنے یا بخش دینے والا (اللہ تعالیٰ کے لئے خصوصی طور پر استعمال ہوتا ہے)غَفّار: معاف کرنے پر بخوشی مائل، بہت معاف کرے یا بخش دینے والا (اللہ تعالیٰ کے لئے خصوصی طور پر آتا ہے)غُفران: معافی، بخشش، کپور عیدُ صوم الغفران یا عید الغُفران: عید کفارہ (عیسائیوں کی)مَغْفِرَۃ: معافی، بخشش، کی المغفور لہ: مرحوم، متوفی، آنجہانی لفظی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

معنی جس کو معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا) غَفَّرَ علی: کی حفاظت کرنا، کو بچائے رکھنا، کی نگہبانی کرنا۔ غُفْرَة: ڈھکنا، غَفِير: بہت (ہجوم) وافر (مقدار) بڑی (تعداد جمع غُفَرَاء: محافظ، سنتری، چوکیدار، جمٌّ (جمع) غفير: بڑی تعداد یا مقدار، لوگوں کا بڑا اجتماع۔ غِفَارَة جمع غَفَائِر: سر پر باندھنے کا رومال یا سر کی چادر۔ مِغْفَر جمع مَغَافِر: خود (helmet)

غفش: الغفش: آنکھ کا کیچڑ۔

غفص: عَافَصَ غِفَاصًا و مُغَافَصَةً ہُ: کو اچانک آلینا، کو بے خبری میں جا پکڑنا، الـغَـافِـصة جمع غَـوَافِـص: بلائے ناگہانی، اچانک آنے والی مصیبت۔

غفق: ا۔ غَفَقَ ـِ غَفْقًا عليه: پر اچانک آجانا، حملہ کرنا۔ ـــ ہُ بالسوط: کو چابک سے بہت مارنا۔ اِغْتَفَقَ به: کا احاطہ کرنا۔

۲۔ غَفَقَ ـِ غَفْقًا الرجلُ: اچانک واپس آجانا۔ المَغْفِق: واپسی کی جگہ۔ المُنْغَفَق: واپس ہونے اور مڑنے کی جگہ۔

۳۔ غَفَقَ ـِ غَفْقَةً: تھوڑی سی نیند لینا۔ غَفَّقَ: اونگھنا۔

۴۔ تَغَفَّقَ الشرابَ: تمام دن شراب پینا یا گھڑی گھڑی شراب پینا۔

۵۔ الغَفَق: ہلکی بارش

غفل: ا۔ غَفَلَ ـُ غُفُولاً و غَفْلَةً و غَفَلًا عنه: سے غافل ہونا، کو بھولنا، چھوڑنا، غَفَّلَ ہُ: کو غافل بنانا یا کہنا۔ غَافَلَ ہُ: کی غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔ اَغْفَلَ الشيءَ: کو نظر انداز کرنا، چھوڑ دینا۔ ـــ ہُ: کو غافل کہنا یا سمجھنا۔ کو اس کے کام کے وقت کا پوچھنا، کی فراغت کا انتظار کرنا۔ تَغَفَّلَ و اِسْتَغْفَلَ ہُ: کی غفلت کے وقت کا انتظار کرنا تغافَلَ: اپنے آپ کو غافل ظاہر کرنا، غفلت کا بہانہ کرنا۔ ـــ ہُ: کی غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔ ـــ عن الامر: کو بھول جانا۔ اِغْتَفَلَ ہُ: کو غافل جاننا، کی غفلت کا انتظار کرنا۔ الـغُفْل من الرجال جمع اَغْفَال: وہ شخص جس سے نہ کسی بھلائی کی امید ہو نہ اس سے خطرہ کا ڈر ہو۔ الغَفَل (مص): فراخیٔ زندگی، کہا جاتا ہے۔ هو في غَفَلٍ من عيشه: وہ زندگی کی فراخی میں ہے۔ الـغُفْلان: غافل، غفلت و لاپرواہی الغَفْلان: غافل۔ الـمَغْفَلَة: لب زیریں کے نیچے بال۔ المُغْفَل (مفع): بے خبر، سادہ لوح

۲۔ غَفَلَ ـُ غُفُولاً و غَفْلَةً و غَفَلًا الشيءَ: کو چھپانا۔ غَفَّلَ الشيءَ: کو چھپانا۔ أَغْفَلَ الكتابَ: تحریر پر نقطے نہ لگانا۔ الـغُفْل جمع اَغْفَال: بے علامت، بے حسب آدمی ـــ من الشِّعْر: شعر جس کا قائل معلوم نہ ہو۔ ـ من الارض: غیر آباد زمین ـــ من الكتب: جس کے مصنف کا نام نہ دیا گیا ہو۔ من الشعراء: مجہول شاعر۔ نَعَمٌ اغفال: وہ مویشی جنہیں داغا نہ گیا ہو۔

○ غَفَلَ ـُ غَفْلَةً و غُفُولاً عن: کو نظر انداز کر دینا، میں غفلت کرنا، سے غفلت کرنا، لاپرواہ ہونا، کی پرواہ نہ کرنا، پر توجہ نہ دینا، کو بھولنا، بھول جانا۔ غَفَّلَ ہُ: کو بے پرواہ بنانا، غافل بنانا، لاپرواہ بنانا یا توجہ نہ کرنے والا بنانا۔ غَافَلَ ہُ: کی غفلت یا بے پرواہی کو استعمال کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا، کو اچانک جالینا، بے خبری میں جالینا۔ اَغْفَلَ ھ: کو نظر انداز کرنا، کی پرواہ نہ کرنا، میں غفلت کرنا، سے غفلت کرنا، لاپروا ہونا، پر توجہ نہ کرنا، کو بھولنا یا بھول جانا، کو چھوڑ دینا، کو وضاحت اور تعین کے بغیر چھوڑ دینا۔ تَغَفَّلَ: بمعنی غَافَلَ۔ تَغَافَلَ: غفلت یا لاپرواہی یا بے خبری ظاہر کرنا یا کا بہانہ کرنا۔ ـــ ہ/ ھ: کو نظر انداز کرنا، سے غفلت کرنا، کی پرواہ نہ کرنا، کی ہنسی کرنا۔ ـــ عن: پر کوئی توجہ نہ دینا، میں دلچسپی نہ لینا، کے بارے میں غیر جانبدار ہونا، اِسْتَغْفَلَ بمعنی غافل: نیز اِسْتَغْفَلَ ہُ: کو بے وقوف سمجھنا، کو بے وقوف بنانا، غُفْل: لاپروا، بے پروا، غافل، توجہ نہ کرنے والا، جس پر نشان نہ ہو، غیر معین، غیر واضح، بے نام، گمنام، غیر معروف ـــ من: سے محروم، خالی، غُفْل من التاريخ: بلا تاریخ، جس پر تاریخ نہ دی گئی ہو غُفْل من الامضاء (التوقيع): بغیر دستخط، بلا دستخط شدہ، غیر معروف، گمنام، حديد غُفْل: پگ آئرن، کروڈ آئرن (دیگ کا لوہا، دیگی لوہا، خام یا کچا لوہا) غَفَل: بے پروائی، غفلت، بے توجہی، نادانستگی، بے خبری، غَفْلَة: بے پروائی، غفلت، بے توجہی، نادانستگی، غفلت، بے مرضی، بے اعتنائی، بے وقوفی، حماقت، موت الـغَفْلَة: اچانک موت على غفلة اور على حين غفلَة: اچانک، بے خبری میں غَفْلان: بے پروا، غافل، غفلت شعار، سہل انگار، لاپروا، توجہ نہ کرنے والا، بے توجہ، اونگھتا ہوا، نیم خوابیدہ، خواب آلود۔ تَغْفِيل: تضحیک، اِغْفَال: غفلت، تغافل، تساہل، بے اتفاقی، بے پروائی، نظر اندازی، ہنسی، فروگزاشت، تَغَافُل: غفلت، تساہل، غافِل جمع غافلون و غُفُول و غُفَّل: بے پروا، غافل، غفلت شعار، سہل انگار، بے خبر، بے توجہ، مُغَفَّل: کٹھور، بے حس، سرد مہر، ذہنی طور پر کاہل، غیر جانبدار، نامخالف، نہ حامی، غیر متوجہ، سادہ لوح، آسانی سے دھوکا کھا جانے والا۔ مُتَغَفِّل: احمق، گدھا، کند ذہن، غبی، کودن، بے وقوف، گاؤدی مُغْفَل: گمنام، غیر معروف، شركة مُغْفَلَة: جائنٹ سٹاک کارپوریشن Joint stock corporation

غفو: غَفَا ـُ غَفْوًا و غُفُوًّا و غَفِيَ يَغْفَى غَفْيَةً و أَغْفَى: اونگھنا، ہلکی نیند لینا، عموماً أَغْفَيْتُ کہا جاتا ہے کبھی غَفَيْتُ بھی کہہ دیتے ہیں الغَفْوَة: غفا سے اسم مرہ ہے، ہلکی نیند، اونگھ، جھپکی۔

۲۔ غَفَا ـُ غَفْوًا و غُفُوًّا الشيءُ: پانی پر تیرنا۔

○ غَفْوَة جمع غَفَوَات اور اِغْفَاءَة: نیند، خواب، جھپکی، قیلولہ، ہلکی سی نیند (کرسی وغیرہ پر) مختصری نیند، اونگھ۔

غفی: ا۔ غَفَى ـِ غَفْيًا الطعامَ: غلہ کو صاف کرنا، اَغْفَى الطعامَ: غلہ کو صاف کرنا۔ الطعامُ: غلہ میں بہت کوڑا کرکٹ ہونا۔ الرجلُ: آدمی کا کھلیان میں بھوسہ پر سونا۔ اِنْغَفَى الشيءُ: ٹوٹ جانا الغَفَى: گیہوں کا چھلکن۔ الـغُفَاء: گیہوں میں ملے ہوئے تنکے اور چھوٹے گیہوں، کھجور کے درخت کی گرد و غبار جیسی آفت جو کھجوروں کو پکنے نہیں دیتی۔

۲۔ الغُفَاءَة: آنکھ کی سفیدی۔

الغُفْيَة: بلند ٹیلہ جس پر پانی نہ چڑھ سکے۔

غق: غَقَّ ـِ غَقًّا و غَقِيقًا القارُ: رال کا یا آواز جوش کھانا۔ ـــ الصقرُ: شکرہ کا آواز نکالنا۔ الغَقّ (مص): کوے کی آواز کی نقل، غَقٌّ الماء و غَقِيقُه: کھلی جگہ سے تنگ جگہ میں داخل ہوتے ہوئے پانی کی آواز۔ الغَقَّاق: مبالغہ کا صیغہ۔

غل: ا۔ غَلَّ ـُ غَلًّا في الشيء: کو کسی چیز میں داخل کرنا۔ ـ المفازةَ: ریگستان میں داخل ہونا۔ الشيءَ: چیز چرا کر اپنے سامان میں رکھ لینا۔ ـ الماءُ بين الاشجار: پانی کا درختوں کے درمیان بہنا۔ ـــ الغِلَالَة: شلوکہ پہننا۔ ـــ ہُ: کو ہتھکڑی یا طوق ڈالنا۔ ـــ غُلُولاً في الشيء: میں داخل ہونا۔ ـ في البلاد: ملک میں گھستے ہوئے دور تک جانا۔ غَلَّلَ الغِلَالَةَ: شلوکہ پہننا۔ ـــ ہُ: کو ہتھکڑی یا طوق ڈالنا۔ اَغَلَّ الجازرُ في الجلد: قصاب کا کھال کھینچتے وقت کچھ گوشت اور چربی کو کھال میں لگا چھوڑنا۔ تَغَلَّلَ في الشيء: میں داخل ہونا۔ ـ بالغالية: خوشبو لگانا۔ اِنْغَلَّ في الشيء: میں داخل ہونا۔ اِغْتَلَّ الثوبَ: کپڑے کا اور کپڑوں کے نیچے پہننا۔ ـــ بالغالية: خوشبو لگانا۔ الغُلّ جمع اغلال و غُلُول: ہتھکڑی، طوق، کہا جاتا ہے۔ هذا غُلٌّ في عنقك: یہ تمہاری گردن میں طوق ہے، جو گردن میں پڑا رہیگا اور تمہارے عذاب کا باعث بنا رہے گا۔ الـغَلَل جمع اَغْلَال: درختوں کے درمیان بہنے والا پانی۔ کھال کھینچتے وقت اس پر چھوڑا ہوا گوشت، چھلنی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الغُلَّة جمع غُلَل: کپڑوں کے نیچے پہننے کا کپڑا، وہ چیز جس میں کوئی چھپ جائے۔ کوزے کے سر پر باندھنے کا کپڑا۔ الغِلالَة جمع غَلائِل: شلوکہ جو کپڑوں یا زرہ کے نیچے پہنتے ہیں۔ زرہ کے دو حلقوں کو جوڑنے والی میخ۔ الغالِیة: مشک اور عنبر سے بنی ہوئی خوشبو۔ الغَلِیلَة: غلائل کا واحد۔ زرہ یا زرہ کے نیچے پہننے کا کپڑا۔

۲۔ غَلَّ ـُ غُلولاً: خیانت کرنا۔ غَلَّ بصرُہٗ: نگاہ کا بھٹک جانا۔ ـِ غِلاً و غَلِیلاً صدرُہٗ: سینہ کا کینہ سے پُر ہونا۔

اَغَلَّ الخطیبُ: خطیب کا اپنے کلام میں حق بجانب نہ ہونا، حق تک نہ پہنچنا۔ ـ الرجُلَ: خیانت کرنا۔ ـ ہٗ: کو خیانت کی طرف منسوب کرنا۔ الغِلّ: کینہ، کھوٹ۔ الغلیل: کینہ

۳۔ غَلَّ عَلاً و غَلَّةً: کو سخت پیاس لگنا، سخت پیاسا ہونا، صفت غَلِیل و مَغلُول و مُغتَلّ۔ الغُلّ جمع اغلال و غُلول: پیاس۔ الغُلَّة جمع غُلَل: سخت پیاس۔ الغُلَل: پیاس۔ الغلیل: سخت پیاسا، سخت پیاس۔ محبت یا غم کی گرمی۔ الغلیلة: غلیل کا مؤنث۔ المُغتَلّ: پیاسا کہا جاتا ہے۔ انا مُغتَلّ الیه: میں اس کا مشتاق ہوں۔

۴۔ اَغَلَّت الارضُ: زمین کا غلہ پیدا کرنا، غلہ والی ہونا۔ ـــ علی عیاله: بال بچوں کے لئے غلہ لانا۔ اِغتَلَّ الضیعةَ: جائیداد کا غلہ لینا۔ اِستَغَلَّ الارضَ: زمین کا غلہ لینا ـــ عَبدَہٗ: غلام کو غلہ لانے پر مجبور کرنا۔ الغَلَّة جمع غَلّات و غِلال: گھر کے کرایہ کی آمدنی یا زمین کا ماحصل۔ المِغلال: بہت غلہ والا۔ المُغَلّات و المُستَغَلّات: زمین کا نفع کرایہ کی شکل میں یا غلہ کی صورت میں۔

۵۔ اَغَلَّ البصرَ: تیز نظر کرنا۔

۶۔ غَلغَلَ غَلغَلَةً و تَغَلغَلَ: چلنے میں جلدی کرنا۔ ـ فی الشیء: میں تھکن اور سختی سے داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ غَلغَلَ الیه رسالةً: اس نے اسے ایک خط بھیجا، جو ایک شہر سے دوسرے شہر تک لیجایا جاتا ہے۔ الغُلغُل جمع غلاغل: درخت کی گہری جڑ۔ رِسالةٌ مُغَلغَلَةٌ: ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچایا ہوا خط۔

○ غَلَّ ـُ غَلّاً ہ فی: کوئی چیز۔ میں۔ کے درمیان ڈالنا، داخل کرنا، رکھنا، لگانا ـــ ہ: میں داخل ہونا ـــ ہٗ: کو ہتھکڑی یا طوق ڈالنا، کو ہتھکڑی لگانا، کو بیڑیاں ڈالنا۔ ـــ: (زمین کا) فصل پیدا کرنا، فصل یا پیداوار دینا۔ غَلّ یدہ الی عنقه: کنجوس ہونا، کچھ نہ دینا، کچھ نہ خرچ کرنا۔ غَلَّ ـِ غَلّاً: (سینہ کا) کینہ یا نفرت سے بھرا ہونا۔ غُلَّ غُلّاً و غُلَّةً: سخت پیاسا ہونا۔ غَلَّلَ ہٗ: کو طوق یا ہتھکڑی ڈالنا۔ کو ہتھکڑی لگانا۔ اَغَلَّ: (زمین کا) فصل پیدا کرنا۔ فصل یا پیداوار دینا ـــ ہ علی: کی باتیں مان لینا، (کی خواہش) کے آگے جھک جانا۔ تَغَلَّلَ فی: میں داخل ہونا۔ اِنغَلَّ بمعنی تَغَلَّلَ۔ اِستَغَلَّ ہ: کو جمع کرنا، پانا، حاصل کرنا، جیتنا، (فصل) کاٹنا، پر نفع کمانا، کی آمدنی وصول کرنا، کو استعمال کرنا، پر روپیہ لگا کر نفع حاصل کرنا، کو اچھے نفع میں تبدیل کرنا، ـــ ہ/ہٗ: سے نفع کمانا، سے فائدہ اٹھانا ـــ ہ: سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کا فائدہ اٹھانا، کی لوٹ کھسوٹ کرنا، کا ناجائز فائدہ اٹھانا، کا استحصال کرنا۔ غِلّ: کینہ، نفرت، بغض، فساد، بدباطنی۔ غُلّ: سخت پیاس۔ جمع غِلال: لوہے کا طوق، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، پابندیاں، بندشیں، روک، آڑ، بند، مزاحمت، رکاوٹ۔ غُلَّة: سخت پیاس۔ غَلَّة جمع غَلّات و غِلال: پیداوار، زرعی پیداوار، فصل، مالیہ، غلہ، اناج، دانہ، پھل۔ غِلالة جمع غَلائل: بے آستین (کی) قبا، شلوکہ۔ غِلالة النوم: رخت شب، خانگی لبادہ۔ غَلیل: سخت پیاس سے نڈھال، انتقام کی پیاس، کینہ سے نڈھال، بدنیتی، سرگرم خواہش، جمع غِلال: سخت پیاسا، پیاس۔ استغلال: استعمال استفادہ، (کان وغیرہ کی) ترقی، ناجائز انتفاع، مطلبی، استعمال، استفادہ، (مزدوروں وغیرہ کا) خون چوسنا، عرق نکالنا، ناجائز یا غلط استعمال، ناجائز انتفاع، استحصال۔ استغلالی: استحصالی۔ مَغلُول: بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ہتھکڑی لگا ہوا، پیاس سے نڈھال، سخت پیاسا۔ مَغلُول الید: ست، کاہل، بے حرکت، بے عمل۔ مُغِلّ: پیداواری، پھل دار، بارآور، زرخیز (زمین، مٹی)۔ مُستَغِلّ: استحصال کرنے والا، استعمال کرنے والا، نفع پانے والا، فائدہ اٹھانے والا، جاگیردار۔ مُستَغَلّ: فصل آور، آمدنی بخش، نفع بخش، پیداوار، زرعی پیداوار، نفع۔

غلب: ۱۔ غَلَبَ ـِ غَلْبًا و غَلَبًا و غَلَبَةً و مَغلَبًا و مَغلَبَةً و غُلُبّی و غِلِبّی و غُلُبَّةً و غلابیةً و اَغلَبَ الرجلُ و غَلَبَ علیه: پر غالب آنا، کہا جاتا ہے۔ غَلَبَ علیه الکرمُ: یعنی سخاوت اس کی سب سے بڑی عادت بن گئی، گویا اس کی یہ حالت ہوگئی کہ وہ سوائے فیاض ہونے کے اور کچھ نہیں ہوسکتا۔ غُلِبَ علی الشیء: کا سے غلبہ کے ذریعہ لیا جانا۔ غَلَّبَ ہٗ علیه: کو پر غالب کرنا۔ غالَبَ غِلابًا و مُغالَبَةً ہٗ: ایک دوسرے پر غلبہ کی کوشش کرنا۔ تَغَلَّبَ علی البلد: (ملک یا) پر چڑھنا، قابو پانا، تغالب علی البلد: پر قابض ہونے کے لئے ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ اُستُغلِبَ علیه الضحكُ: پر ہنسی کا غالب آنا۔ الغالِب جمع غالِبون و غَلَبَة (فا): کہا جاتا ہے۔ هذا مایحدث غالبًا و فی الغالب: یہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے۔ الغَلّاب جمع غَلّابون: بہت غلبہ پانے والا۔ الاَغلَب: اسم تفضیل۔ علی الاَغلَبِ و فی الاَغلَبِ: یعنی اکثر و بیشتر۔ الغُلُبَّة (مص) من الرجال: بہت جلد غالب آنے والا۔ المُغَلَّب (مفع): بار بار مغلوب، جسکا ہوا۔ المَغلَبَة (مص): غلبہ۔ غلبہ کی جگہ۔

۲۔ غَلِبَ ـَ غَلَبًا: موٹی گردن والا ہونا۔ صفت اَغلَب م غَلْباء جمع غُلْب۔ الغَلْباء: اَغلَب کا مونث: بڑا اونچا ٹیلہ۔

۳۔ اِغلَولَبَ العشبُ: گھاس کا گھنا ہونا ـــ القومُ: لوگوں کا بہت ہونا۔

الغَلْباء: گھنے درختوں کا باغیچہ۔ بڑا قبیلہ۔

○ غَلَبَ ـِ غَلْبًا و غَلَبَةً ہ/ہٗ یا علی: کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، فتح کرنا، پر غالب آنا، کو نیچا دکھانا، کو شکست دینا، فتح کرنا، پر غالب آنا، کو نیچا دکھانا، کو مارنا پیٹنا، کا بہتر حصہ پانا، پر فاتح ہونا، پہ برتری حاصل کرنا، پر فوقیت حاصل کرنا ـــ ہ/علی: کا ماہر بن جانا، پر غلبہ پانا، قابو پانا، کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، پر قبضہ کرنا، کو زبردستی لے لینا، کو گرفت میں لینا ـــ ہ/علی: کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، پر قابو پانا، کو گھیرے میں لینا، کو کچل ڈالنا ـــ ہ علی: سے کوئی چیز چھین لینا، کو جھٹکا دیکر اس سے کچھ چھین لینا۔ سے کوئی چیز لوٹ لینا ـــ علی: میں عام ہونا، میں کا رواج ہونا، سے بڑا یا زیادہ یا زیادہ اہم، یا زیادہ بااثر ہونا۔ غلب: اغلب ہونا، غالبًا ہونے والا ہونا۔ غَلَبَ علی الظن: اغلب ہونا۔ تَغلِبُ علیه الصحةُ او الجِدَّةُ: ٹھیک، تقریبًا صحیح پایا ہونا۔ تَغلِبُ علیه الکآبةُ: وہ اکثر اوقات افسردہ، پژمردہ یا بجھا بجھا سا رہتا ہے۔ اس میں حزن و ملال عام ہے۔ یَغلِبُ علیه الکرمُ: اس کی نمایاں خوبی اس کی فیاضی ہے۔ غَلَّبَ ہٗ علی: کو پر فوقیت دلانا، بالا دست بنانا، کو پر فتح یاب کرنا۔ ہ علی: کو کے اوپر یا سامنے رکھنا۔ غالَبَ ہٗ: کو شکست دینے کی کوشش کرنا ـــ ہ/ہٗ: سے لڑنا، لڑائی کرنا، سے لڑنا، بھڑنا، کا مقابلہ کرنا، کے ساتھ جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، سے کشتی کرنا۔ ـ المصاعب: مشکلات کے ساتھ لڑنا۔ ـ ہٗ: پر غالب آنا (جیسے نیند)۔ تَغَلَّبَ علی: پر فتح پانا، پر پورا غلبہ، میں پوری مہارت یا میں

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کمال حاصل کرنا۔ پر غالب آنا، قابو پانا، کا ماہر ہونا، سے نبٹ لینا، کو کر لینا، (مزاحمت) کو ختم کر دینا، سے زیادہ اہم ہونا۔ تَغَلَّبَ علیه النُعاسُ اونگھ نے اس پر غلبہ پالیا۔ تـغـالـب ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑنا، جدوجہد کرنا، غَـلُب: فتح، فتح کرنا، شکست دینا، غالب آنا۔ غَـلبة: فتح بے کار گفتگو، بک بک، بچوں کی سی باتیں، غَلَبَاوِی بکواسی، باتونی، بھڑ بھڑیا، فصیح، غَلَّاب۔ فاتح، فتح مند، کامیاب، بامراد۔ اَغْلَب: بڑا حصہ، اکثریت (کا) بیشتر۔ فی الأغـلب: زیادہ تر، بیشتر، اکثر حالتوں میں، عموماً، عام طور پر بالعموم، فـی الأغلب و الأَعَمّ: زیادہ تر، بیشتر، اکثر، حالات میں، عموماً، عام طور پر بالعموم۔ فی اغـلـب الظن: غالبًا، اغلبًا؛ غالب امکان ہے کہ اَغْلَبَ أَمرِہ و اغْلَبَ الامر: بیشتر حالات میں، اکثر و بیشتر۔ اغلباً، اَغْلَبِية: اکثریت، زیادہ حصہ۔ اغلبية خاصة: مشروطا اکثریت اغلبية مُطلقة: مطلق اکثریت، غیر مشروطا اکثریت غِـلاب: لڑائی، جنگ، جدوجہد، جھگڑا، فساد، مقابلہ، مبارزت۔ مُـغَـالبة: بمعنی غِـلاب: غالب: اہم، نمایاں، با اثر، (کا) بیشتر، (کا) بڑا حصہ، (کی) اکثریت جمع غَلَبَة فاتح، غـالباً و فی الغالب: عموماً عام طور پر، بالعموم، زیادہ تر، بیشتر، اکثر حالتوں میں، اغـلبـاً و الـغالبُ انّ اور قاعدہ یہ ہے کہ، قاعدہ کے طور پر۔ مُغَلَّب: شکست خوردہ مغلوب؛ قابو یافتہ۔ مغلوب علی امرہ: بے بسی۔

غلت: غَلَتَ ـُ غَلْتًا البیعَ او الشراء: خرید و فروخت کو منسوخ کرنا۔ غَـلِـتَ ـَ غَلَتًا: غلطی کرنا، خصوصاً حساب میں۔ تَـغَـلَّتَ و اغْتَلَتَ ہُ: کو بے خبری میں جالینا۔ الغَلْتَة: رات کا پہلا پہر۔

غلث: ا۔ غَـلَـثَ ـِ غَلْثًا الشئ بالشئ: کو میں ملانا۔ الغَلَث: غلہ میں ملا ہوا کوڑا کرکٹ۔ الغَلِث: مجنون۔ والغَلِيث و المغلوثُ من البُرّ: کوڑا کرکٹ ملا ہوا گیہوں۔

۲۔ غَلِثَ ـَ غَلَثًا القومُ: سختی سے لڑنا، قتال کرنا۔ الغَلِث والمُغَالِث: سخت جنگجو۔

۳۔ غَلِثَ ـَ غَلَثًا و اغْتَلَثَ الزندُ: چقماق کا آگ نہ دینا۔

غـلـج: غَـلَجَ ـِ غَلْجا و غَلَجانًا الفرسُ: گھوڑے کا برابر رفتار پر چلنا۔ تَـغَـلَّجَ علیه: پر ظلم کرنا الـغُلُج: جوانی کا عمدہ حصہ جوانی کا جوبن۔ الاُغْلُوج جمع أَغالِيج: نرم و نازک ٹہنی۔

عـلـد: الـعـلادیشـیـا (ن) خاردار درخت کی ایک قسم جو سجاوٹ کے کام آتا ہے۔

غـلـس: غَلَّس۔ آخر شب کی تاریکی میں چلنا۔ ـــ فی العمل: آخر شب کی تاریکی میں کام کرنا۔ ـــ الماءَ: آخر شب کی تاریکی میں پانی پر پہنچنا۔ أَغْـلَـسَ: آخر شب کی تاریکی میں چلنا۔ الـغـلـس جمع: اَغْلَاس: آخر شب کی تاریکی۔

غـلـص: غَـلَـصَ ـُ غَـلْـصًا و غَلْـصَـمَ غَلْصَمَةً ہُ: کا حلق کاٹنا، حلق پکڑنا الغَلْصَحة (مص) جمع غَلَاصِم: سر اور گردن کے درمیان کا گوشت۔ گروہ، سرداران قوم کہا جاتا ہے۔ ھو فی غَلْصَمَةٍ من قومه: وہ اپنی قوم میں معزز شخص ہے۔

غـلـط: غَـلِـطَ ـَ غَلَطاً فی الأمر میں غلطی کرنا صفت غَالِط اور صفت مفعولی: مَغْلُوطٌ فیه یعنی غلطی کرنے والا اور جس میں غلطی کی گئی۔ غَـلَّـطَـہُ: کو غلطی کی طرف منسوب کرنا غَـالَطَ غِلَاطًا و مُغَالَطَةً وَأَغْلَطَ ہُ: کو غلطی میں ڈالنا۔ تَـغَالَطَ القومُ: ایک دوسرے کو غلطی میں ڈالنا۔ الـغَـلَـط (مـص): غلطی۔ خطا، اس کی جمع اغـلاط درست نہیں۔ الـمَـغْـلَـطَة جمع مَـغَـالِـط والأُغلوطَة جمع أُغـلوطات و أَغالِيط و الغَلُوطه: غیر واضح مسئلہ جس سے کسی کو غلطی میں ڈالا جائے۔ وہ بات جس میں غلطی کی جائے یا جس میں کثرت سے غلطی واقع ہو۔ کہا جاتا ہے۔ ھـذه مسألةٌ غَلُوطَة: اس مسئلہ میں بہت غلطی کی جاتی ہے۔ الـمِـغْلَاط: بہت غلطیاں کرنے والا۔

○ غَـلِـطَ ـَ غَلَطًا: غلطی کرنا، غلطی کا ارتکاب کرنا، خطا کرنا، غلطی پر ہونا۔ غَـلَّـط ہ: کو قصوروار قرار دینا، کو ضلالت و گمراہی کا الزام دینا، کو یہ خیال دلانا کہ خطا اس کی ہے، سے غلطی کرانا۔ غَالَطَ ہ: کو غلطیوں میں ملوث کرنا، کو دھوکا دینا، فریب دینا سے دغا بازی کرنا، بے ایمانی کرنا، کو ٹھگ لینا۔ أَغْـلَـطَ ہُ: سے غلطی کرانا۔ تَـغَـالَـطَ: ایک دوسرے کو گمراہ کرنا، فریب دینا، ایک دوسرے سے دغا بازی کرنا، بے ایمانی کرنا۔ غَلَط جمع اَغْـلاط۔ غلطی، خطا، فروگذاشت بھول، چوک، سہو۔ سخت فاش غلطی، حماقت، غلط، نادرست، غَلَطُ الحِسُّ: فریب نظر، وہم، موہوم پیکر، ہوش کی فریب خوردگی۔ فی الامر غَلَط: کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے۔ غَلْطَة جمع غَـلَـطـات و اَغْلَاط: خطا، غلطی، بھول، چوک، سہو، فروگذاشت، فاش غلطی غَـلْـطَةٌ مَـطْـبَـعِيَّة: طباعت کی غلطی، سہو کتابت۔ غَـلْـطَان: غلطی کرنے والا، غلطی پر، خطا کرنے والا۔ اُغْلُوطة جمع اُغْلُوطَات و أَغـالیط: حرف گیر سوال، نکتہ چین سوال مَغْلَطَة جمع مَغَالِط: حرف گیر سوال، نکتہ چین سوال مُغَالَطَة جمع مُغَـالَطـات: فریب دہی، دغا بازی، دھوکا، ٹھگی، دغا، فراڈ، جعلسازی، توڑ مروڑ کر بیان کرنا مغالطہ: غلط دلیل، باطل استدلال۔

غلظ: ا۔ غَلَظَ ـُ غِلَظًا و غَلْظَةً و غِلْظَةً و غُلْظَةً و غِلاظَةً: موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، سخت ہونا، صفت غليظ جمع غِلَاظ و غَالِظ جمع غَـلَـظَة، غَلُظَ ـُ غِلَظًا و غَـلْـظَةً و غِـلـظَةً و غُـلْـظَةً و غلاظَةً: موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، سخت ہونا، صفت غَـلِـيـظ جمع غِـلاظ و غَالِظ جمع غَلَظَة، ـ الرجُلُ: سخت و تند خو ہونا۔ ـ ن السنبلةُ: بالی میں دانہ پڑنا غَـلَّظَ ہُ: کو موٹا، گاڑھا یا سخت، یا کھردرا یا مشکل بنانا۔ غَالَظَ مُغَالَظَةً ہُ: سے دشمنی کرنا، کی مخالفت کرنا، أَغْـلَظَ الشئَ: کو موٹا، گاڑھا یا سخت پانا۔ ـ المُسَافِر: مسافر کا سخت زمین پر اترنا۔ ـــ لَہُ فی القول: سے سخت کلامی کرنا۔ اِسْتَغْلَظَ: موٹا، گاڑھا یا سخت ہونا یا ہو جانا ـــ الشئَ: کو موٹا، گاڑھا یا سخت پانا۔ الـغَـلْـظ: ناہموار سخت زمین۔ الغِلْظة (مص): شدت، کھردرا پن، بدتمیزی، گستاخی، سختی، بدتہذیبی کہا جاتا ہے۔ بینهم غِلْظَةٌ: ان کے درمیان دشمنی ہے۔ الغُلاظ: موٹا، گاڑھا، سخت۔

۲۔ غَلَّظَ الیمینَ: قسم کو پختہ کرنا۔ ـــ علیه فی الیمین: پر قسم میں سختی کرنا، کہا جاتا ہے اخذ منه میثاقًا غلیظا: اس نے اس سے پختہ عہد لیا۔

○ غَـلَـظَ علی: سے سختی سے پیش آنا، سے سنگدلانہ برتاؤ کرنا۔ غَـلَّـظَ الیـمین: پکی قسم کھانا۔ اَغْـلَـظَ لـه الـقـول یـا فـی الـقـول: پر گستاخی سے چیخنا، سے بدتمیزی سے بات کرنا۔ غلیظُ الرقَبة: سخت گردن والا، ضدی، ہٹ دھرم، ہٹیلا، ہٹ کا پکا، منہ زور سرکش۔ یـمـینٌ مُـغْـلَّظَة: پکا حلف حلفِ لازم، اَغْـلَظ: زیادہ موٹا، زیادہ موٹا جھوٹا، زیادہ کھردرا، زیادہ سخت، زیادہ بدتمیز، زیادہ غیر مہذب۔

غلف: ا۔ غَـلَـفَ ـُ غَلْفًا الشئَ: کو ڈھانکنا، غلاف میں ڈالنا۔ غَـلَّف الشئَ: کو غلاف میں ڈالنا، کو ڈھانکنا، ڈھانپنا۔ اَغْـلَـفَ الشـئَ: کے لئے غلاف بنانا، کو غلاف میں ڈالنا۔ تَـغَلَّفَ: غلاف میں ہونا ـــ الرجُلُ: داڑھی میں غالیہ خوشبو لگانا۔ اِغْتَلَفَ: غلاف میں ہو جانا ـــ بـالغـالیة: غالیہ خوشبو سے ملی ہوئی ہونا۔ الـغَـلَـفُ (مـص): ایک درخت جس سے چمڑا رنگتے ہیں۔ الغِلاف جمع غُلُف و غُلُف و غُلَّف: غلاف، نیام، لفافہ، کیس غـلاف خـط مُتحرك (ھ): خط ثابت۔ الأَغْلَف جمع غُلُف: جو کچھ یاد نہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رکھے۔کہاجاتا ہے قَـلْـبٌ اَغْـلَفُ. نہ سمجھنے اور نہ یاد رکھنے والا دل۔ الـمُـغَلَّف (مفع). بعض ادباء اسے کتاب کے غلاف کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ کِتابٌ مُغَلَّف سادہ کور والی کتاب۔غیر مجلد کتاب۔

۲۔ غَـلِفَ ـَ غَلَفًا ختنہ شدہ نہ ہونا۔ الغُلْفَة جمع غُلَف. وہ کھال جس کو ختنہ کرنے والا کاٹتا ہے۔ الـغُـلْفَتان. مونچھوں کے دونوں طرف۔ الأغْلَف. غیر مختون جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو۔ الغَلْفَاء جمع غُلْف الاَغْلَف کا مونث۔ ارضٌ غَلْفَاء نہ چری ہوئی زمین۔

۳۔ الـغَـلَف. وسیع زرخیزی۔ عـامٌ اَغْـلَفُ: زرخیزی کا سال۔ سنة غَلْفَاءُ زرخیزی کا سال۔

○ غـــلَّف ﻫ کو کور یا چادر، لفافہ یا کیس میں رکھنا کو لپیٹنا، لفافے میں ڈالنا۔ ـــ ﻫ ب کو سے ڈھانپنا، ڈھکنا، چھپانا۔ غِـلاف جمع غُـلُف کور (cover)، ڈھکنا، پوش، پوشش، چادر، شال، کھیس وغیرہ، ریپر Wrapper ریپنگ (Wrapping)، جزدان، کیس، صندوق، لفافہ۔ مُغَلَّفات. کور، کورنگ، ریپ، ریپر، ریپنگ، لفافہ۔ (اور مُغَلَّف: غیر مختون۔)

غلق: غَـلِقَ ـَ غَلَقًا تنگ دل ہونا۔ غَـلَـقَ ـِ غَلْقًا البابَ: دروازہ بند کرنا۔ (یہ خراب زبان ہے) غَـلَّقَ البـابَ: دروازہ بند کرنا۔ اَغْـلَـقَ البَابَ: دروازہ بند کرنا ـــ ہٗ علی کذا: کو پر مجبور کرنا۔ اُغْـلِقَ علیه الامرُ: پر معاملہ مبہم غیر واضح ہونا ـــ القاتلُ فی یدِ الـولـیِّ: قاتل کا حاکم کے حوالے کیا جانا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔کہاجاتا ہے۔ اُغْـلِقَ فـلانٌ بـجریرته: فلاں کو اس کے جرم سمیت اس کے بارے میں فیصلہ کے لئے پیش کیا گیا۔اسم الغلاق۔اِنْـغَـلَـقَ الـبــابُ: دروازہ بند ہونا، دروازہ کا کھلنا مشکل ہونا۔ اِسْتَغْلَقَ البابُ دروازہ کا کھلنا مشکل ہونا ـــ الکلامُ علی فلانٍ: پر گفتگو کا بند ہوجانا ساکت رہنا۔ الغَلَق جمع اَغْلَاق و جــج اَغَـالِـیق: قفل، تالا بڑا دروازہ (ب) معماروں کی اصطلاح میں وہ پتھر جو محراب یا قبہ کے بیچ میں لگایا جاتا ہے۔ بـابٌ غُـلُق: بند دروازہ۔ کـلامٌ غَلِقٌ و مُغْـلَـق: مشکل اور دشوار فہم کلام۔ الـمِغْلَاق جمع مَغَـالِیق: جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے۔(یعنی قفل، تالا) ـــ من الاسلحة الناریة الـحـدیثة: (بندوق وغیرہ کی) نالی کا گولی والا حصہ (breech of a fire arm) الـمِـغْـلَـق و الـمُغْلُوق جمع مَغَالیق: جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے۔تالا، قفل وغیرہ۔

۲۔ غَلِقَ ـَ غَلَقًا. غضبناک ہونا، بدخلق ہونا صفت غَلِق

۳۔ غَـلِـقَ ـَ غَـلَـقًا الرهنُ فی یدالمرتهن: رہن کا مرتہن کی ملکیت ہو جانا (ایسا اس وقت ہوتا ہے جب رہن وقت مقررہ پر نہ چھڑایا جائے) غَالَقَ مُغَالَقَةً ہٗ: سے شرط لگانا۔ تَغَالَقَ القومُ: باہم شرط لگانا المِغْلَق جمع مَـغَـالِق. جوئے کے تیروں میں سے ایک جیتنے والا تیر۔

○ غَلَقَ ـِ غَلْقًا ﻫ: (دروازہ وغیرہ) کو بند کرنا، قفل لگانا، چٹخنی لگانا۔ غَـلِـقَ ـَ غَلَقًا الرهنُ: رہن کا ضبط ہو جانا۔ غَـلَّـقَ ﻫ: (دروازہ وغیرہ) کو بند کرنا قفل لگانا، چٹخنی لگانا۔ اَغْلَقَ بمعنی غَلَّقَ: نیز اَغْـلَـقَ رهناً: گرو رکھی ہوئی چیز کے ضبط ہونے کا اعلان کرنا، رہن (نامہ) کو پہلے ہی بند کر دینا۔ اُغْـلِقَ علی. کے لئے مبہم ہونا، غیر واضح ہونا، تاریک ہونا، مشکوک ہونا، مشتبہ ہونا، ناقابل فہم ہونا، اِنْـغَلَقَ. بند ہونا، مقفل ہونا چٹخنی لگا ہونا، ناقابل فہم ہونا۔ اِسْـتَـغْـلَقَ. دھندلا ہونا، تاریک ہونا، مبہم ہونا ناقابل فہم ہونا، مشکل ہونا، پیچیدہ ہونا الجھا ہوا ہونا۔ اِسْتَغْلَقَ علیه الکلامُ: وہ بولنے کے قابل نہ رہا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، وہ ساکت ہو گیا، غَـلَقَ جمع اَغْلَاق: قفل، تالا، غَـلِق: دھندلا سا، تاریک، مبہم، غیر واضح، مشکوک، مشتبہ، مشکل، عسیر الفہم: پیچیدہ، غامض، دقیق، مُغْـلَـق غِلاقَة: بقیہ رقم جس کی ادائیگی نہ ہوئی ہو مِغْلاق جمع مَغَالیق: قفل، تالا، (بندوق وغیرہ کی) نالی کا گولی والا حصہ (Breech of fire arm) کھٹکے کا قفل، تالے وغیرہ کی روک، بلی، اڑانی، بکسوا، کور، ڈھکنا (Lid) وغیرہ جس سے بند کیا جائے یا باندھا، جوڑا یا لگایا جائے۔ مُغْلَق بند بند کیا ہوا، مقفل، چٹخنی چڑھایا ہوا، دھندلا سا، تاریک، مبہم، مشتبہ، مشکوک، عسیر الفہم، مشکل، مُسْـتَـغْـلَـق: دھندلا سا، تاریک خفیہ، پیچیدہ، غامض زومعنی۔

غلم: ۱۔ غَـلِـمَ ـــَ غَـلَمًا و غُلْمَةً: شہوت پرست ہونا۔صفت۔ غَـلِـم و غِلِّیـم مونث غَـلِـمَة و غِلِّیـم و غِلِّیـمَة: اِغْـتَـلَـمَ: شہوت پرست ہونا صفت مُغْـتَـلِـم و مُغْتَلِمَة ـ الشرابُ: شراب کا جوش مارنا ـــ ت الامواجُ: موجوں کا زور سے اٹھنا

۲۔ الـغُلَام ج غِـلْـمَـان و غِـلْمَة و اَغْلِمَة: نوجوان، غلام، مزدور الـغُلامَة: غلام کی مونث۔ باندی، لونڈی۔ الـغُلُومَة و الغُلامِيَّة و الغُلُومِيَّة: نوجوانی کی حالت جوانی۔ الغَيْلَم: بہت بالوں والا نوجوان (ح) کچھوا (ح) مینڈک، کنویں میں پانی کا سوتا، کہا جاتا ہے۔ مافی [illegible]

○ غَـلِـمَ ـَ غَلَمًا و غُلْمَةً و اِغْتَلَم: شہوت سے برانگیختہ ہونا، حسی خواہش کے قبضہ میں آجانا۔ غَـلِـم: شہوت سے برانگیختہ ہونے والا، حسی خواہش میں گرفتار، آوارہ، اوباش، نفس پرست، شہوت پرست، بندہ نفس، غُلْمَة: شہوت، نفسانی خواہش، گرمی، مبتذل روش، غُلَامٌ جمع غِـلْـمَـان و غِلْمَة: لڑکا، نوجوان، غلام، نوکر، ویٹر، کھانا لانے والا۔ غُـلَامِيَة: نوجوانی، جوانی، شباب غَيْـلَـم: کچھوا۔ غُـلُـومة: نوجوانی، جوانی، شباب۔

غلن: غَـلَـنَ ـِ غَلْنًا الشبابُ: جوانی کا پرجوش ہونا۔ غُلْوان الشبابِ او الامر: شباب کا آغاز اور جوش۔ معاملہ کا اول اور سرگرمی الـغَـلِّيـنـه (فی اصطلاح الملاحین: سمندر کا بےلطف سکون، اس سے ملاحوں نے فعل بنالیا ہے۔وہ کہتے ہیں غَلَّن الـبحرُ: سمندر پر سکون ہوگیا۔

غلو: ۱۔ غَلَا ـُ غُلُوًّا: زیادہ ہونا، بلند ہونا ـــ النبتُ پودے کا گنجان اور بڑا ہوجانا۔ الـسهـمُ: تیر کا جاتے ہوئے اونچا ہونا اور نشانہ سے آگے نکل جانا ـــ بالدِین: دین میں جوشیلا اور بہت سخت اور بے لوچ ہونا۔ ـــ غَلَاءً السعرُ: نرخ یا بھاؤ کا مہنگا یا ستا ہونا صفت غالٍ و غَلِیّ ـ غَلْوًا و غُلُوًّا السهمَ و بالسهم: تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا۔ غَالَى غِلاءً و مُغالاةً فی الامر بات میں مبالغہ کرنا ـــ بالشیٔ: کو مہنگے داموں خریدنا۔کی قیمت بڑھانا ـــ الرجُلَ خوبی میں کسی آدمی کا مقابلہ کرنا ـــ السهمَ و بالسهم: تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا۔ اَغْلَى الشیَٔ: کو مہنگا پانا، کو مہنگے داموں خریدنا ـــ السعرَ: بھاؤ کو گراں کرنا ـــ الکَرْمَ: انگور کی بیل کے پتے اتارنا ـــ و تَـغَالَى و اغْلَوْلَى الشـجــر درخت کا گنجان اور بڑا ہونا۔ اِغْـتَـلَـى البعیرُ: اونٹ کا جلدی چلنا۔ اِسْتَغْلَى الشیَٔ: کو مہنگا پانا۔اَلغَالِی جمع غُلَاة م غَالِية جمع غَالِيات و عَوالٍ فا: کہاجاتا ہے۔ بعتُه بالغالی و بالغَلِیّ: میں نے اس کو مہنگا فروخت کیا۔ الغَلاء: مہنگائی۔ الـغَلْوَة جمع غَلَوَات و غِلاء: غلا کا اسم مرۃ۔ تیر مارنے کا انتہائی فاصلہ الـغُـلَـوَاء و الـغُلَوَاء: حد سے تجاوز ـــ و الـغُـلْـوان: شباب کا آغاز اور سرگرمی و جوش کہا جاتا ہے۔ خفّض من غُلَوَائك: اپنی سرگرمی کچھ کم کرو۔ فـعـلـهُ فـی غُلَوَاء شبابه: اس نے یہ کام اپنی جوانی کے آغاز میں کیا یا جوانی کی سرگرمی میں کیا۔ الـمِـغْلَى و الـمِـغْلاة جمع مَـغَالٍ: تیر جو بہت دور فاصلے پر مارا جائے۔

martat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲- الغَالي چربی دار گوشت۔ الغَلَاء جمع أَغْلِيَة (ح): چھوٹے جسم کی ایک مچھلی۔

○ غَلَا ـُ غُلُوًّا في ہیں مناسب حدود سے تجاوز کرنا، میں بہت دور تک جانا، کو بڑھا چڑھا کر بیان، میں مبالغہ کرنا۔ غَلَا ـُ غَلَاءً (قیمت، نرخ بھاؤ کا چڑھنا، سخت ہونا، مہنگا ہو جانا، مہنگا ہونا، قیمتی ہونا۔ غَلَّی ہ: کی قیمت بڑھانا غَالَی في: میں حد سے تجاوز کرنا، حد سے زیادہ ہونا، بہت دور تک جانا، مبالغہ کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ــ ب کی بہت زیادہ قیمت طلب کرنا، کو مہنگے داموں فروخت کرنا کا بہت ذخیرہ کرنا، کو بہت قیمت سے منسوب کرنا، کو مہنگا سمجھنا۔ اغلی بمعنی غَلّی نیز أَغْلَی ہ کو عزیز یا قیمتی قرار دینا، کی قدر کرنا کو بہت عزیز رکھنا یا جاننا، کو سنبھال کر رکھنا، کو عزیز جاننا، آنکھ کا تارا سمجھنا، پیارا سمجھنا، کی تعریف کرنا، تَغَالَی في ہیں حد سے تجاوز کرنا، حد سے زیادہ ہونا، بہت دور تک جانا۔ ــ في / ب: میں مبالغہ کرنا۔ ــ اِسْتَغْلَی ہ کو مہنگا پانا۔ غُلُو حد سے تجاوز، حد سے زیادہ۔ فضول خرچی اسراف، مبالغہ، غَلَاء: زیادہ قیمت، قیمتوں کی بلند سطح، مہنگائی، زیادہ دام۔ غُلَوَاء: حد سے تجاوز، حد سے زیادہ فضول خرچی۔ خَفَّف من غلوانه: کی لگن کی ہمت شکنی کرنا، کے جوش کو لگام دینا۔ أَغْلَی: زیادہ مہنگا، زیادہ قیمتی، مُغَالاة حد سے تجاوز، حد سے زیادہ، فضول خرچی، اسراف، مبالغہ اِغْلَاء: تعریف کرنا، تعریف کے پل باندھنا، بڑھانا، بہت تعریف کرنا، تحسین، توصیف، مدح غَالٍ مہنگا، قیمتی، عزیز، محبوب جمع غُلَاة ایک انتہا پسند فرقہ کا پیرو، انتہا پسند، بنیادی تبدیلیوں کا حامی، کٹر حامی، کٹر، متعصب۔

غلی ۱- غَلَی ـِ غَلْيًا و غَلَيَانًا القِدر حرارت کی طاقت سے ہانڈی کا جوش مارنا۔ غَلَّی تَغْلِيَةً و أَغْلَی اِغْلَاءً القدرَ ہانڈی کو جوش دینا۔ المغْلَاة کیتلی، کڑھائی دیگ، بائلر (Boiler) اسی سے ہے المغلاة الكهربائية: یعنی برقی کیتلی، دیگ، بائلر وغیرہ۔ عام لوگ اسے غِلَّايَة کہتے ہیں۔

۲- غَلَّی تَغْلِيَةً و أَغْلَی اغلاءً الرجُلُ: دور سے اشارہ سے سلام کرنا۔

۳- تَغَلَّی خوشبو لگانا۔ الغَالِيَة جمع غوال: ایک مرکب خوشبو ہے جو مشک اور کافور سے بنتی ہے۔

۴- الغَلْيُون جمع غلايين حقہ۔

○ غَلَی ـِ غَلْيًا و غَلَيَانًا: کھولنا، ابلنا، جوش کھانا، خمیر اٹھنا، (الکحل مشروبات کا) غَلَّی ہ کو ابالنا، جوش دینا۔ أَغْلَی بمعنی غَلَّی۔ غَلْي و غَلَيَان: ابلنا۔ غَلَّايَة جمع غَلَّايَات بائلر boiler، کیتلی، کڑھائی، دیگ، آلةٌ غلّايَة: سٹیم بائلر (Steem boiler)۔ ـ مَغْلِي یخنی۔ پتلا شوربا، جوشاندہ۔ غَلْبُون جمع غلايين و غَلَاوِين: قدیم ہسپانوی بحری جہاز۔ غليون جمع غلامين: حصہ۔

غمّ ۱- غَمَّ ـُ غَمًّا ہ: کو ڈھانکنا۔ القمرُ النجومَ: چاند کا ستاروں کی روشنی کو ماند کر دینا۔ ــ الشيءُ الشيءَ: ایک چیز کا دوسرے کے اوپر ہونا۔ ــ غَمَمًا: لمبے بالوں والا ہونا۔ صفت۔ أَغَمّ م غَمَّاء جمع غُمّ غَمَّ علیہ الامرُ: پر معاملہ کا مخفی ہونا، پوشیدہ اور مبہم ہونا۔ أَغَمَّت السماءُ: آسمان کا بادل والا ہونا۔ اِغْتَمَّ النباتُ: نباتات کا لمبا اور بہت ہونا۔ اِنْغَمَّ: ڈھک جانا۔ الأَغَمُّ منَ السحاب گھرا ہوا بادل، گھٹا ٹوپ بادل۔ ليلةٌ غَمّاءُ: ابر آلود رات، تاریک رات۔ الغُمَّة جمع غُمَم: ہر وہ چیز جو دوسری کو چھپائے۔ کہا جاتا ہے هو في غُمَّة: وہ حیرت میں ہے۔ الغَمَّی: تاریکی، غبار۔ الغَمَام: بادل۔ غَمَامَة جمع غَمائِم: بادل کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے هو يفترّ عن مثل حب الغَمَام: وہ مسکراتا ہے تو اس کے سفید سفید دانت اولوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اليغَمَامَة جمع غَمائِم: چھینکا جسے اونٹ یا کتے وغیرہ کے منہ پر اس لئے باندھا جاتا ہے کہ تا کہ وہ نہ کاٹ سکے، نہ کھا سکے اور نہ پھونک سکے۔ جانور کی آنکھوں کے ایک طرف باندھی ہوئی چیز تا کہ وہ صرف سامنے دیکھ سکے، دائیں بائیں نہ دیکھے۔ الغُمُوم: چھوٹے مخفی ستارے۔ ارضٌ مُغِمَّة: بہت پودوں والی زمین۔ غيمٌ مُغْمِغم: بہت پانی والا بادل۔

۲- غَمَّ ـُ غَمًّا ہ: کو غمگین کرنا۔ غَامَّ مُغَامَّةً ہ: ایک دوسرے کو غمگین کرنا۔ أَغَمَّ ہ: کو غمگین کرنا۔ تَغَامَّ: غم ظاہر کرنا۔ اغْتَمَّ: غمگین ہونا۔ الرجُلُ: کا سانس رکنا۔ اِنْغَمَّ: غمگین ہونا ما أَغَمَّكَ لِي و عَلَيَّ و إِلَيَّ: کس بات نے تجھے میرے لئے غمگین کیا؟ یہ بات تعجب کے موقع پر کہی جاتی ہے۔ الغَامّ فا۔ یومٌ غامٌ: غم کا دن۔ الغَمّ جمع غُمُوم و الغُمَّة جمع غُمَم: غم، حزن، بے چینی کرب۔ یومٌ غَمٌّ: غم کا دن ليلةٌ غَمٌّ و غَمَّةٌ: غم کی رات۔ الغُمَّی و الغَمَّاء: غم، بے چینی، مصیبت، کہا جاتا ہے۔ مثلك يكشفُ الغَمَّاءَ: تجھ جیسا غم دور کر دیتا ہے۔ الغَمَّی: شدت، سختی الغُمُوم: غم کی جمع۔

۳- غَمَّ ـُ غَمًّا و أَغَمَّ اليومُ: دن کا سخت گرمی والا ہونا۔ یومٌ غامٌّ: گرم دن۔ یومٌ غَمٌّ: گرم دن۔ ليلةٌ غَمٌّ و غَمَّةٌ: گرم رات۔

۴- الغَمَّة عند العامة (بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ کی) سری (جو بھون کر اور مصالحے لگا کر کھائی جاتی ہے) پائے، سری پائے۔ الغُمام: زکام۔ الغَمِيم: گرم کر کے گاڑھا کیا ہوا دودھ۔

۵- غَمْغَمَ غَمْغَمَةً الثورُ: بیل کا خوف کے وقت ڈکارنا۔ ــ الابطالُ: بہادروں کا لڑائی میں آوازیں نکالنا۔ ــ الكلامَ: بات کو واضح نہ کرنا۔ الصبيُّ: بچے کا دودھ کے لئے پستانوں پر رونا۔ تَغَمْغَمَ الغريقُ تحت الماء: ڈوبنے والے کا پانی کے نیچے گڑگڑانا۔ ــ الرجُلُ: واضح کلام نہ کہنا۔ الغَمْغَمَة (مص) جمع غَمَاغِم: بیلوں کی خوف کے وقت اور بہادروں کی لڑائی کے دوران کی آوازیں اور شور۔ غیر واضح کلام

○ غَمَّ ـُ غَمًّا ہ کو ڈھانکنا، چھپانا۔ ــ ہ کو غمگین کرنا، کو رنجیدہ کرنا، تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، کو مصیبت پہنچانا، مغموم کرنا۔ غُمَّ علی پر یا کیلئے غیر واضح ہونا، مبہم ہونا، دھندلا سا ہونا، نا قابل فہم ہونا۔ غَمَّمَ ہ کو ڈھکنا، چھپانا، أَغَمَّ آسمان کا بادلوں سے بھر جانا، پر بادل چھانا، ــ ہ کو غم، تکلیف، رنج سے بھر دینا، کو تکلیف دینا، دکھ پہنچانا۔ مصیبت پہنچانا، مغموم کرنا۔ اِنْغَمَّ: مصیبت زدہ ہونا مغموم ہونا، پریشان ہونا، غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا دکھ پہنچنا سخت پریشان ہونا، فکر مند ہونا۔ اِغْتَمَّ بمعنی اِنْغَمَّ غَمّ جمع غُمُوم: سخت غم، دکھ، تکلیف، رنج والم، مصیبت، قہر، بپتا، بلال، اندوہ، پریشانی غَمَّة: بمعنی غَمّ۔ غَمَام اسم جمع واحد غمامة جمع غَمَائم بادل۔ حَبُّ الغَمَام: اولا، ژالہ۔ غِمامة جمع غَمَائِم چھینکا۔ آنکھوں کے دونوں طرف لگائی جانے والی چیز تا کہ جانور صرف سامنے دیکھ سکے۔ أَغَمّ مونث غَمَّاء: گھنے بالوں سے بھرا ہوا، لمبے موٹے بالوں والا، جھبرا، گہرے (بادل)۔ غَامّ: المناک، پر ملال، رنج دہ، غمناک، اندوہگین، غم انگیز، دردناک، حزین، تکلیف دہ، حبس والا، بے برسات کا حبس والا (دن، رات) مغموم: رنجیدہ، غمگین، پریشان مصیبت زدہ، دکھی۔ مُغْتَمّ: بمعنی مغموم۔

غمت: غَمَتَ ـِ غَمْتًا ہ الطعامُ: کھانے کا دل پر بھاری ہونا اور کھانے والے کو مدہوش کر دینا۔ الشيءَ کو ڈھانکنا، ــ ہ في الماء: کو پانی میں غوطہ دینا۔ غَمِتَ ــَ غَمَتًا: کھانے کا دل پر بھاری ہونا اور اس کی وجہ سے مدہوش ہو جانا۔

غمج: غَمَجَ ـِ غَمْجًا و غَمَجَ۔ غَمَجًا الماءَ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گھونٹ گھونٹ کرکے برابر پانی پینا۔ الغَمْجَة والغُمْجَة جمع غُمَج گھونٹ۔

عمد: غَمَدَ ـِ غَمْدًا السیفَ تلوار کو میان میں کرنا۔ ـ الشیَّ: کو چھپانا۔ ـ الامرَ کی اصلاح کرنا۔ غَمِدَ ـَ غَمَدًا اللیلُ رات کا تاریک ہونا۔ ـ ت البئرُ: کنویں کے پانی کا زیادہ ہونا، کم ہونا (ضد)۔ غَمَدَّهُ: کا قصور چھپالینا۔ أَغْمَدَ السیفَ تلوار کو میان میں کرنا۔ ـ الاشیاءَ کو ایک دوسرے میں داخل کرنا۔ تغَمَّدَهُ کا قصور چھپالینا۔ ـ الاناءَ برتن کو بھر دینا۔ ـ هُ اللّٰهُ برحْمَتِهٖ اللہ کا کسی کو اپنی رحمت میں چھپالینا، اپنی رحمت کے سایہ میں رکھنا۔ اِغْتَمَدَ اللیلُ: رات میں داخل ہونا جیسے وہ اس کے لئے میان ہوگئی۔ الغمدُ جمع غُمُود و اَغْماد نیام تلوار کا میان۔ (ز) وہ جگہ جہاں سے پتہ لٹکتا ہے الاَغْماد مفرد غِمْد بعض حشرات کے بالائی پر۔ بئر غَامِدٌ و غَامِدَةٌ جمع غَوَامِد وہ کنواں جس کا پانی مٹی سے ڈھکا ہوا ہو۔ سفینةٌ غامِدو غامِدَةٌ: بھری ہوئی کشتی۔ مَغْمَدُ السیف: تلوار کا میان، نیام مُغْمَداتُ الأَجْنِحَة (ح) چار پروں والے بڑے درجہ کے حشرات جن کے بالائی پر نچلے پروں کے لئے غلاف کا کام دیتے ہیں۔

○ غَمَدَ ـِ غَمْدًا ﻫ (تلوار) کو میان میں کرنا۔ تلوار کو نیام میں رکھنا۔ ـــ ﻫ تلوار کو کسی کے سینہ میں گھونپنا۔ غَمَدَهُ برحمته: (اللہ کا) کسی کو اپنی رحمت سے محصور کرنا، پناہ دینا، کی حفاظت کرنا، کو ڈھانپ لینا، غَمَّدهُ: کی خامیاں، جرائم کو چھپالینا اَغْمَدَ ﻫ: (تلوار کو) میان میں کرنا۔ تَغَمَّدَهُ برحمته (اللہ تعالیٰ کا) کسی کو اپنی رحمت کے حصار میں لینا، پناہ دینا، حفاظت میں لینا، کی پردہ پوشی کرنا، غِمْد جمع أغماد وغُمُود نیام، میان۔

غمر ا۔ غَمَرَ ـُ غَمْرًاهُ الماءُ کو پانی کا ڈھانک لینا۔ کہا جاتا ہے۔ غمر فلانًا بفضله: اس نے فلاں پر بڑا احسان کیا۔ غَمُرَ ـُ غَمَارَةً و غُمُورَةً الماءُ: پانی کا زیادہ ہونا۔ غُمِرَ علیه: پر بیہوشی طاری ہونا۔ غَمِرَ ـَ غِمْرًا و غَمَرًا صدرُه علّی اس کا سینہ میرے خلاف کینہ سے بھر گیا۔ ـــ تْ یدُهُ: کے ہاتھ پر گوشت کی چربی کا لگ جانا۔ غَمَّرَ وجهَهُ: چہرے پر زعفران ملنا۔ غامَرَ مُغامَرَةً هُ: سے سخت لڑائی کرنا اور موت کی پروانہ کرنا۔ اَغْمَرَهُ الحرُّ کو گرمی کا کم ہو کر سفر پر جرات دلانا۔ تَغَمَّرَ چہرے پر زعفران ملنا۔ اِغْتَمَرَ: پانی میں ڈوبنا۔

چہرے پر زعفران ملنا۔ الماءُ الشیَّ کو پانی کا ڈھانک دینا۔ اِنْغَمَرَ: پانی میں ڈوبنا، کودنا، گھسڑنا۔ الغَمْر (مص) جمع غِمار وغُمُور: بہت پانی، سمندر کا بڑا حصہ، پورا کپڑا، شریف، وسیع الاخلاق، کہا جاتا ہے۔ ثَوبٌ غَمْرٌ یعنی کھلا کپڑا۔ لیلٌ غَمْرٌ سخت تاریک رات۔ غَمْرُ الناس لوگوں کی جماعت: هُوَ غَمْرُ الرِداء وہ بہت اچھے کام کرنے والا ہے، فیاض ہے سخی ہے۔ ـ جمع غُمُور: گوشت کی چکناہٹ۔ الغُمْرُ (ن) زعفران۔ ورس سے بنائی ہوئی ایک چیز جو منہ پر لگاتے ہیں۔ الغِمر کینہ، پیاس۔ الغُمَرُ جمع غِمار و اَغْمَار: چھوٹا پیالہ۔ الغَمَرُ جمع غُمُور: کینہ غَمَرُ الناس لوگوں کی جماعت، گروہ۔ الغَمِر: چکنا، بہت چربی دار۔ الغُمْرَة زعفران۔ الغَمْرَة جمع غَمَرات وغِمَار و غُمَر: شدت۔ غُمْرَةُ الشیَ: سختی و تنگی، غمراتُ الموت موت کی تکالیف اور سختیاں۔ الغَامِر (فا): اجاڑ زمین۔ الماءُ الغامِر: بہت پانی الغُمار والغَمَار والغُمَارَة والغَمَارَة لوگوں کی جماعت۔ انبوہ۔ کہتے ہیں دخلتُ فی غُمَار الناس: میں لوگوں کی بھیڑ میں داخل ہوگیا۔ الغَمِیر بہت پانی۔ المُغَامِرُ و المُغَمِّر: خطرات میں کود پڑنے والا۔ المُغْتَمِر: مدہوش۔ طعامٌ مُغْتَمِر خشک بالیوں میں ڈھکا ہوا اناج المَغْمُور (مفع): گمنام، غیر مشہور (کہا جاتا ہے۔ هو مَغْمُورٌ فیهم: وہ ان میں کسی شہرت کا مالک نہیں۔) مقہور مغلوب۔

۲۔ غَمُرَ ـُ غَمَارَةً وغُمُورَةً الرجُلُ آدمی کا جاہل ہونا۔ الغُمْر والغِمْر والغُمُر جمع أَغْمار والغَمر جمع غُمُور ناتجربہ کار جاہل۔ الغَمارَة: جہالت، ناتجربہ کاری۔

۳۔ غَمَرَ بالشیَّ کو پھینک دینا، دور کر دینا۔

○ غَمُرَ ـُ غَمَارَةً و غُمُورَةً بہت ہونا، وافر ہونا، فراوان ہونا، کثیر ہونا، بہ افراط ہونا، کی بہتات ہونا، بھرپور ہونا، کی کثرت ہونا، کی افراط ہونا (پانی کا) چھلکنا۔ غَمَرَ ـُ غَمْرًا ﻫ کو زیرآب کرنا، کو سیلاب میں غرق کرنا۔ ـــ ﻫ بکو سے بھر دینا، ـــ ﻫ نے چھلکنا، کے کناروں سے باہر آنا۔ ـ ﻫ بکوئی (سیال) چیز، سے ڈھکنا۔ ـ ب ﻫ کسی سیال چیز پر ڈالنا۔ ـ ﻫ فی: کو میں رکھنا، بھگونا، تر کرنا۔ ـــ ہ/ ﻫ فی کو میں ڈبونا، کو میں بھگونا، شرابور کرنا، تر کرنا، کو میں رکھنا، کو میں جما دینا، کو میں مضبوطی سے لگا دینا۔ خصوصا مجازاً کسی شخص [illegible] مضبوطی سے لگا دینا۔ ـ ﻫ/ہ کو ڈھانکنا۔ دفن کرنا۔ ـ ہ ب: کو کوئی چیز بے اندازہ عطا کرنا، پر کا ڈھیر لگا دینا۔ پر کچھ لادنا، پر کی بوچھاڑ کرنا، پر کی بھرمار کرنا۔ پر کی بارش کرنا، کو سے سرفراز کرنا۔ ـ ہ/ ﻫ (احساسات کا) کے دل کو بھر دینا، کے دل میں سرایت کرنا، رچ بس جانا۔ غَامَرَ ﻫ / فی: میں اندھادھند کود جانا، اپنے آپ کو سر کے بل میں پھینک دینا ـ: جان جوکھوں میں ڈالنا، خطرناک کام کا بیڑا اٹھانا۔ ـــ ب: کا خطرہ، مول لینا، غَامَرَ بنفسه: جان جوکھوں کے بہادروں کے کاموں میں مشغول ہونا، اپنی زندگی کو خطرہ میں ڈالنا اِغْتَمَرَ ﻫ کو ڈھکنا، دفن کرنا، نگل جانا، ہڑپ کر جانا، غَمْر ج غِمار و غُمُور سیلاب طوفان (اپنے مجازی معنی میں بھی): ہمہ گیر، سیلابی، کناروں سے باہر نکلنے والا (پانی) نہایت فیاض، انتہائی سخی، غَمْرو غُمر جمع أَغْمار: ناتجربہ کار، سادہ لوح، سادہ، صاف دل۔ غَمْرَة جمع غَمَرات وغمار: سیلاب، طوفان، زیرآب کرنا، (جذباتی) افراط جمع غِمار: سیلاب (مجازاً واقعات وحوادث کا) آفات، مصائب، سختیاں (زندگی، جنگ کے) اتار چڑھاؤ۔ افراط اور بہتاط (جیسے علم ومعرفت کی)۔ غَمَراتُ الموت: موت کے شدید درد، موت کی کشمکش۔ غُمُر جمع اَغْمار: بازوبھر غِمار خطرہ، جوکھوں، مُغامَرة جمع مُغامَرات: خطرے والا یا احمقانہ کام، مہم، جان بازی کا کام، جوکھوں کا کام، اولوالعزی کا کام،، طالع آزمائی، خطرہ، جوکھوں، غَامِر: کناروں سے بہتا ہوا، ہمہ گیر، بہت، باافراط، بکثرت، فراوان، بہت، اجاڑ، بنجر، خالی (زمین)۔ مَغْمُور: غیر معروف، انجانا، غیر واضح، مبہم، دھندلا سا مُغامِر اندھادھند کام کرنے والا، غیر محتاط، من چلا، طالع آزما، جان باز، عیار، زمانہ ساز۔

غمز ا۔ غَمَزَ ـِ غَمْزًاهٗ کو ہاتھ سے ٹٹولنا۔ ـ القناةَ نیزہ کو آزمانے کے لئے دانتوں سے دبانا ـ الغامِز (فا) نیزہ کی آزمائش کرنے والا ـ الغَمّازَة: اسم مبالغہ۔

۲۔ غَمَزَ ـِ غَمْزًا بالرجل وعلیه: کو طعنہ دینا اور اس سے برائی کی کوشش کرنا۔ غَمَزَ عیبُه او داؤه کا عیب یا بیماری ظاہر ہونا۔ غَامَزَ مُغامَزَةً هُ پر عیب لگانا ـ اَغْمَزَهُ: ناکارہ جانور خریدنا ـــ فیه: کی عیب جوئی کرنا، کی شان گھٹانا ـــ اِغْتَمَزَهُ: کو طعنہ دینا ـــ الکلمةَ: کلمہ کو کمزور سمجھنا ـــ الغَمز جمع غمز جمع ـ و اَغماز نکمے مویشی، کمزور آدمی۔ کہا جاتا ہے ـــ هو

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رجلٌ غَمِزٌ من قوم غَمْزٍ او اَغماز: وہ کمزور قوم کا ایک کمزور آدمی ہے۔ الغمیز: نمایاں عیب —— الغمیزۃ: برائی نقص، کمزوری (عقل یا کام کی) کہا جاتا ہے ۔مافیه غمیزۃٌ: اس میں کوئی نقص ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ المَغمَز جمع مغامز عیب، طعن یا طمع کی جگہ کہا جاتا ہے ۔مافیه مَغمَزٌ: اس میں کوئی نقصان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں، جس کی طمع کی جائے۔ المَغمُوز (مفع) ملزم، متہم۔

۳۔ غَمَزَ ـــ غَمْزًا ہُ بالعین او الجفن او الحاجب: کی طرف آنکھ یا ابرو وغیرہ سے اشارہ کرنا —— تغامزَ القومُ: ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرنا۔ الغمّازۃ (عندالعامۃ): چھوٹا سا گڑھا، جو مسکراہٹ کے وقت رخساروں پر پیدا ہو جاتا ہے۔

۴۔ غَمَزَ۔ غَمَزَاتِ الدابةُ: جانور کا لنگڑا ہونا۔

○ غَمَزَ۔ غَمْزًا ہُ/ ہ ب کو سے محسوس کرنا چھونا۔ ہ ب: کو سے اشارہ کرنا ہ: کو آنکھوں سے اشارہ کرنا، کو آنکھ مارنا۔ ب: پلک جھپکنا۔ ب/ علی: پر بہتان باندھنا، کو بدنام کرنا، کی بدگوئی کرنا۔ غَمَزَ الجرسَ: گھنٹی کا بٹن دبانا، غَمَزَ قناتَهُ: کو ٹھونک بجا کر دیکھنا، کی گہرائی میں جانا، کی نبض دیکھنا۔ تغامَزَ: ایک دوسرے کو اشارہ کرنا، ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کرنا۔ آنکھ مارنا۔ اِغتمزَ ہ: کی قدر گھٹانا کو کم کرنا، گھٹانا، کرکرا کرنا۔ —— ہ: کو گھٹا کر بتانا، برے لفظوں میں بیان کرنا، کی مذمت کرنا، برائی کرنا، میں نقص نکالنا، پر عیب لگانا، کو بدنام کرنا، کی تحقیر کرنا غَمْزۃ جمع غَمزات: نشان، اشارہ آنکھوں سے اشارہ، طعنہ، آوازہ، غَمّازۃ: مسکراتے وقت رخساروں میں پیدا ہونے والا چھوٹا سا گڑھا غَمیزۃ: عیب، نقص، کمزوری، داغ، دھبہ (کردار پر) مَغمَز: کمزوری، نقص، عیب، کمی خامی (کردار پر) داغ یا دھبہ، کمزور جگہ، شک پیدا کرنے والی بات ایسی بات جو تنقید، طعنوں وغیرہ کو دعوت دے۔

غمس: ۱۔ غَمَسَ ـِ غَمْسًا الشیئَ فی الماءِ: کو پانی میں ڈبونا، غوطہ دینا ـ السنانَ فی صدرہ: بھالے کو کے سینہ میں گھونپنا۔ غُمُوسًا النجمُ: ستارہ کا ڈوبنا۔ غَمَّسَ ہُ: کو زور سے ڈبونا غوطہ دینا۔ —— الابلَ: اونٹوں کو پانی پلا کر واپس چلا جانا۔ غامَسَ مُغامَسَةً: اپنی جان کو لڑائی یا خطرہ میں ڈالنا۔ —— فلانًا: کو ایک دوسرے کو پانی میں غوطے دینا اِنغَمَسَ و اغتَمَسَ فی الماء: پانی میں غوطہ کھانا۔ —— فی الشیئ: میں داخل ہونا، گھسنا۔ الغَمّاسة جمع غَمّاس (ح): مرغابی، مینڈک۔ طعنةٌ غَمّاسةٌ: بڑا زخم لگانے والا وار۔ الغمُوس جمع غُمُس: مصیبت میں ڈالنے والا معاملہ ــ من الرجال سخت بہادر۔ کہا جاتا ہے۔ طعنةٌ غَمُوسٌ: پار ہو جانے والی نیزہ کی ضرب۔ الیمینُ الغَمُوس: ارادۃً کھائی ہوئی جھوٹی قسم۔ الغَمیس: تاریکی، جھاڑی، درختوں کا جھنڈ۔ لیلٌ غَمیسٌ: تاریک رات۔ الغَمیسة: جھاڑی، درختوں کا جھنڈ۔

۲۔ غَمَّسَ الشربَ: کم پینا۔

۳۔ غامَسَ مُغامَسةً فی الامر: میں جلدی کرنا۔

○ غَمَسَ ـِ غَمْسًا ہ/ ہ فی: کو میں ڈبو دینا۔ پھینک دینا، بھگونا، شرابور کرنا، تربتر کرنا، ڈبونا۔ غَمَّسَ بمعنی غَمَسَ۔ اِنغمس: ڈبکی لگانا۔ پھینکا جانا، بھیگ جانا، ڈوب جانا، —— فی: اپنے آپ کو میں پھینکنا، میں چھلانگ لگانا۔ اغتمس بمعنی انغمس۔ غَمُوس: بدشگونی والا، بدشگون، منحوس، آفت رساں، مصیبت بھرا، مصیبت انگیز، مَغمُوس ب/ فی: میں ڈوبا ہوا۔

غمش: غَمِشَ ـَ غَمَشًا: اشک بہنے سے چندھا ہو جانا صفت اَغمَش

غمص: ۱۔ غَمَصَ ـِ و غَمِصَ ـَ غَمْصًا ہُ: کو حقیر جاننا۔ النعمةَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ علیه کلامهُ: پر عیب لگانا۔ اِغتَمَصَ ہُ: کو حقیر جاننا، گھٹیا سمجھنا۔ رجلٌ غَمِصٌ: عیب جوئی کا عادی رجلٌ مَغمُوصٌ علیه: دین یا حسب میں عیب لگایا ہوا آدمی۔

۲۔ غَمَصَ ـــ و غَمِصَ ـ غَمْصًا علیه: پر جھوٹ بولنا۔ الغَمُوس: جھوٹا۔ یمینٌ غَمُوصٌ: جھوٹی قسم۔

۳۔ غَمِصَ ـــ غَمَصًا: آنکھ کا کیچڑ والی ہونا۔ —— ت عینهُ: کی آنکھ کا کیچڑ بہنا صفت اَغمَص اَغمَص: جس کی آنکھ سے کیچڑ بہتا ہو۔ اور وہ آنکھ جس سے کیچڑ بہتا ہو غَمصاء جمع غُمص کہلاتی ہے۔ الغَمَص (مص): آنکھ کا کیچڑ۔

○ غَمَصَ ـِ غَمْصًا ہ/ ہ: کی بے توقیری کرنا، کو حقیر جاننا، کو گھٹا کر بتانا، برے لفظوں میں بیان کرنا، کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہ کرسکنا، سے نفرت کرنا، کو حقارت سے دیکھنا، کو ذلیل جاننا، اَغمَص: چندھا۔

غمض: ۱۔ غَمَضَ ـــ غُمُوضًا الکلامُ: کلام کا دقیق اور پیچیدہ ہونا۔ ـ غَمَضَ السیفُ فی اللحم: تلوار کا گوشت میں گھس جانا۔ ـ الرجلُ فی الارض: ملک میں پھرنا، غَمُضَ ـُ غموضا الکلامُ: کلام کا دقیق اور پیچیدہ ہونا۔ غَمُضَ ـــ غُمُوضَةً و غَماضَةً المکانُ: جگہ کا پست ہونا۔ غَمَّضَ الکلامَ: کلام کو مبہم کرنا۔ عینهُ: آنکھ بند کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ غَمَّضَ عن الإساءۃِ: اس نے جرم سے چشم پوشی کی اَغمَضَ عینهُ: آنکھ بند کرنا۔ کہا جاتا ہے اغمضت العینُ فلانًا: آنکھ نے فلاں شخص کو حقارت سے دیکھا۔ اَغمَضَ عن الشیئ: سے تجاوز کرنا، چشم پوشی کرنا۔ اَغمض علی کذا: کو برداشت کرنا، پر راضی ہونا۔ اِغتَمَضَ البرقُ: بجلی کا چمکنا بند ہونا۔ الرجلُ عن الإساءۃ: جرم سے چشم پوشی کرنا۔ ما اغتمضت عیناہ: اس کی آنکھ نہیں لگی۔ اِنغمَضَ طرفُهُ: آنکھ بند ہونا۔ الغَمْض (مص): جمع غُمُوض و اَغماض: پست زمین کہا جاتا ہے۔ فلانٌ ذو غَمْضٍ: فلاں شخص گمنام اور ذلیل ہے۔ الغُمْضُ و الغِماض و الغَماض و التغماض: آنکھ کی جھپکی، نیند، کہا جاتا ہے۔ ما اکتحلت عینی غَمضًا او غماضًا او اغماضًا او تغماضًا او تغمیضًا: یعنی میں نہیں سویا الغامِض (فا) جمع غَوامِض: پست زمین، گمنام، ذلیل امرٌ غامِضٌ: مبہم معاملہ۔ الخلخالُ الغامِض: پازیب جو پنڈلی کو بھر دے۔ الغامِضة جمع غامِضات و غَوامِض: غامض کا مونث۔ الدارُ الغامِضةُ: سڑک سے علیحدہ گھر۔ الغُمُوضة: خرابی، نقص، برائی۔ کہا جاتا ہے۔ مافی هذا الامر غُمُوضةٌ: اس معاملہ میں کوئی خرابی نہیں۔ الغَمیضة: عیب، خرابی، نقص الغُمَّیضة: آنکھ مچولی والا کھیل۔ الاِغتِماض (مص): کہا جاتا ہے۔ اتلی ذلك علی اغتماض: یعنی وہ مجھے کسی زحمت کے بغیر مل گیا۔ المَغمَض جمع مَغامِض: پست زمین۔ المُغمِضات: جانتے بوجھتے کئے جانے والے گناہ۔ مُغمِضات اللیل: رات کی تاریکیاں۔

۲۔ غَمَضَ ـِ غَمْضًا و غَمَّضَ عنه فی البیع: سے خرید و فروخت میں رعایت و نرمی برتنا۔ اَغمَضَ عنه فی البیع: سے خرید و فروخت میں رعایت اور نرمی برتنا۔ —— فی السلعة: سامان تجارت کے گھٹیا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹانا۔

۳۔ اَغمَضَ فلانًا: دوڑ میں کسی سے آگے نکل جانا۔

۴۔ الغامِض جمع غَوامِض من الکعوب و السوق: ٹخنہ یا موٹی پنڈلی۔ غَوامِض الابل: چھوٹے اونٹ

○ غَمَضَ ـُ و غَمُضَ ـُ غُمُوضًا: چھپا ہونا، مخفی ہونا، چھپنا، (آنکھ) بند کرنا، دھندلا ہونا، تاریک ہونا، مشکل ہونا۔ عسیر الفهم ہونا، پیچیدہ اور دقیق ہونا، مغلق ہونا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نا قابل فہم ہونا۔ غَمَّضَ ہ :کو دھندلا کرنا، مبہم بنانا، تاریک کرنا، مشکل اور عسیر الفہم بنانا مغلق بنانا۔ عینیه عن :سے، کی طرف، پر، کے سامنے، اپنی آنکھیں بند کر لینا ۔۔: سو جانا، سویا ہوا ہونا۔ غمض جُفُونَه علی القَذَی: تحمل سے تکلیف برداشت کرنا، کڑوی گولی نگلنا، کھسیانی ہنسی نکالنا اور بھگتنا۔ اغْمَضَ عینیه عن: کے لئے کسی کی آنکھوں کو دھندلا کرنا، دھندلا نا یا دھیما سا کرنا، کو کے متعلق اندھا کرنا، سے آنکھیں بند کر لینا، پر، کی طرف، کے سامنے آنکھیں بند کرنا۔ ۔۔ عن کو نہ دیکھنے کا بہانہ کرنا، ظاہر کرنا کہ وہ کو نہیں دیکھ رہا۔ کے متعلق اندھا بننا، کو نظر انداز کرنا، سے چشم پوشی کرنا، سے اغماض کرنا ۔۔ علی/عن: کو برداشت کرنا، جھیلنا، اغْمَضَ من عینیه: آنکھیں بند کرنا، کو دیکھنے سے انکار کرنا، انْغَمَضَ: آنکھ کا بند ہونا اِغْتَمَضَ آنکھ کا بند ہونا، ہو جانا، سویا ہوا ہونا غمض: نیند غُمْضَة: جگمگاہٹ، چمک، آنکھ جھپکنا، جھلملانا، فی غُمْضَةِ عَیْنٍ: ابھی، ایک منٹ میں۔ غِماض بمعنی غُمْضَة۔ غُمُوض: تاریکی، دھندلا پن، ابہام، گمنامی، مغلق ہونا، راز، سر بستہ راز، بھید، نا معلوم شے، پراسراریت، نا قابل توجیہ ہونا، عدم وضوح، غیر یقینی حالت، غیر یقینی صورتحال، غُمُوضَة: دھندلاہٹ، تاریکی، ابہام، عدم وضوح، عسیر الفہمی، پیچیدگی، دقت، مغلق ہونا، اغْمَض: زیادہ دھندلا، زیادہ تاریک، زیادہ مبہم، زیادہ گمنام، زیادہ غیر معروف، زیادہ خفیہ، زیادہ پیچیدہ، زیادہ غامض: زیادہ نا معلوم، زیادہ غیر معروف۔ غامِض جمع غَوَامِض: پوشیدہ، چھپا ہوا، تاریک، دھندلا سا، غیر واضح، مبہم، ذومعنی، مشکوک، مشتبہ، مشکل، عسیر الفہم، پیچیدہ، دقیق، نا قابل فہم، نا قابل ادراک، پراسرار، جس کی تہہ تک نہ پہنچا جا سکے۔ خفیہ، پیچیدہ۔ معمہ سا۔ غامِضَة جمع غامضات وغَوَامِض: غیر حل شدہ مسئلہ، پہیلی، معما، عقدہ، چیستان، بھید، راز، سربستہ راز، نا معلوم شے، غوامِضُ الفکارِہ: کسی کے دلی یا قلبی یا گہرے خیالات۔

غمط :ا۔ غَمَطَ ـِ وغَمِطَ ـَ غَمْطًا ہ :کو حقیر جاننا، سے حقارت کرنا، ۔۔ النعمةَ: نعمت کی ناشکری کرنا ۔۔ الحقَّ: حق کا انکار کرنا۔

۲۔ غَمَطَ ـِ وغَمِطَ ـَ غَمْطًا الماءَ: زور سے پانی کا گھونٹ بھرنا۔ غامَطَ مُغامَطَةً فی الشرب: لگا تار گھونٹ لینا۔

۳۔ غَمَطَ ـِ وغَمِطَ ـَ غَمْطًا الذبیحةَ: ذبح کرنے کے جانور کو ذبح کرنا۔

۴۔ أغْمَطَ علیه الشیُ: کے ساتھ ہمیشہ ہونا، دائمی ہونا۔

۵۔ تَغَمَّطَ علیه الترابُ: کو مٹی کا ڈھانپ کر مار ڈالنا۔ اِغْتَمَطَ الشیُ: نکل جانا پھر اس کا کوئی نشان نہ ملنا۔ ۔۔ ہُ بالکلام: کو باتوں سے مغلوب کرنا ۔۔ ہُ: دوڑ میں ہارنے کے بعد سے آگے بڑھ جانا۔ الغَمْط: پست زمین۔

☉ غَمَطَ ـِ وغَمِطَ ـَ غَمْطًا ہ :سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، کو گھٹا کر بتانا، کو برے لفظوں میں بیان کرنا، کی صحیح قوت و قیمت کا اندازہ نہ کر سکنا، ۔ ہ: کی ناشکری کرنا۔ غمطه حَقَّهُ: کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کر لینا، کے حقوق تسلیم کرنے سے انکار کر دینا۔

☉ غَمْغَمَ: منہ ہی منہ میں کچھ کہنا، بڑبڑانا۔ غَمْغَمَة: جمع غَمَاغِم: چیخ پکار۔ جنگ کی چیخ و پکار

غمق :ا۔ غَمَقَ ـُ وغَمِقَ ـَ وغَمُقَ ـُ غَمَقًا المکانُ: جگہ کا تر و نمناک ہونا۔ عام لوگ غَمِقَ المکانُ کو غَمِقَ المکانُ کے معنی میں لیتے ہیں (جس کا معنی ہے جگہ کا کشادہ ہونا، دور ہونا، دراز ہونا، اس معنی میں اس کی صفت غمیق بمعنی عمیق آتی ہے)۔ ۔۔ النباتُ: نباتات کا نمنا کی کثرت سے خراب ہو جانا۔ صفت غَمِق مونث غَمِقَة

۲۔ غَمِقَ البعیرُ: اونٹ کا غمقہ کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ الغَمَقَة (طب) پیٹھ میں لگنے والی بیماری۔ المَغْمُوق: غمقہ کی بیماری میں مبتلا۔

☉ غَمِقَ ـَ غَمَقًا و غَمَقَ ـُ و غَمُقَ ـُ غَمْقًا: نم ہونا، سیلا ہونا، مرطوب ہونا، بھیگا ہونا، بھیگا سا۔ بھیگا بھیگا ہونا، تر ہونا۔ غامِق: کالا (رنگ)

غمل :ا۔ غَمَلَ ـُ غَمْلًا الشیُ: کو چھپانا، کی اصلاح کرنا، کو درست کرنا ۔۔ فلانًا: کو پسینہ لینے کے لئے ڈھانکنا۔ ۔۔ البسرَ: گدر کھجور کی پال دبانا ۔۔ العِنَبَ فی الزبیل: انگوروں کو برتن میں تہ بہ تہ رکھنا۔ ۔ وتَغَمَّلَ النباتُ: پودوں کا ایک دوسرے پر چڑھنا۔ غَمِلَ ـَ غَمَلًا: تہ بت ہونے کی وجہ سے بدبودار ہونا الغَمِیل جمع غَمْلَی: پیچیدہ اگی ہوئی گھاس ۔ من الارض: پست زمین المَغْمُول (مفع): گمنام۔

۲۔ غَمَلَ ـُ غَمْلًا و تَغَمَّلَ الشیُ: وسیع ہونا۔

۳۔ غَمِلَ ـَ غَمَلًا الجرحُ: پٹی کی وجہ سے زخم کا خراب ہونا صفت غَمِل أَغْمَلَ الاھابَ: کچے چمڑے کو خراب ہونے کے لئے چھوڑ دینا۔ اِنْغَمَلَ الادیمُ: چمڑے کا خراب ہو جانا۔ صفت غَمِیل۔

۴۔ الغُمْلُج والغُمَلِّج والغِمْلاج: غیر مستقل مزاج آدمی۔ مونث کو غُمْلَج اور غَمَلَّج کہا جاتا ہے۔ الغُمْلُج: موٹا اور لمبا آدمی الغُمْلُوج: غیر مستقل مزاج آدمی، مونث غُمْلُوجَه۔ جمع غَمَالِیج (ز): سایہ میں اگی ہوئی شاخ الغِمْلیج: غیر مستقل مزاج آدمی (مونث غِمْلِیجة) فربہ اندام لمبا شخص۔

☉ غَمْلَج وغِمْلاج: متلون، ناپائیدار، بے اصول، بے قاعدہ، بے ثبات، غیر یقینی، بدلتا رہنے والا۔

غمن: غَمَنَ ـُ غَمْنًا الشیَ: کو چھپانا، البسرَ: گدر کھجور کی پال دبانا۔ فلانًا: کپڑے ڈال کر کسی کو پسینہ لانا۔ غَمِنَ وانْغَمَنَ فی الارض: میں دفن کیا جانا، میں غائب ہونا۔

غمو: غَمَا ـُ غَمْوًا البیتَ: گھر کو مٹی اور لکڑی سے ڈھکنا۔ الغما تثنیه غَمَوَان جمع أَغْمِیَة و أَغْماء (ب): مکان کی چھت یا چھت کی مٹی وغیرہ۔

غمی: غَمَی ـِ غَمْیًا وغَمَّی البیتَ: گھر کو مٹی اور لکڑی ڈال کر ڈھکنا۔ غُمِیَ وأُغْمِیَ الیومُ: دن بھر ابر چھایا رہنا ۔۔ علی المریض: بیمار پر بے ہوشی طاری ہونا صفت مَغْمِی ومُغْمًی علیه الغَمَی: وہ چیز جس سے گھوڑے کو پسینہ لانے کے لئے ڈھانپا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ غَمًی: بیہوش آدمی، جس پر غشی طاری ہو۔ جمع کی صورت میں کہا جاتا ہے۔ رجالٌ غَمًی وأَغْمَاء: غش کھائے ہوئے مرد۔ و الغِماء جمع أغماء و أَغْمِیَة: مکان کا چھت۔

☉ غَمِیَ ـِ غَمْیًا ہ :مکان پر چھت ڈالنا۔ مکان چھتنا، غُمِیَ علیه: غش کھانا، کو غش آنا، غش کھا کر گرنا، بیہوش ہونا، غَمَّی: (آنکھ مچولی میں) آنکھ پر پٹی باندھنا۔ أُغْمِیَ علیه: غش کھانا، کو غش آنا، غش کھا کر گرنا، بیہوش ہونا۔ غَمْی و اِغماء: غشی، غش، بیہوشی لُعْبَةُ الاسْتِغْمَایَة: آنکھ مچولی۔ مَغْمِی و مُغْمًی علیه: بیہوش کا غشی میں۔

غنّ :ا۔ غَنَّ ـَ غَنًّا النخلُ: کھجور کا پکنا ۔۔ الوادی: وادی کا بہت درختوں والی ہونا، وادی میں درختوں کی بہتات ہونا۔ غَنَّنَ الروضَ: باغ کو سرسبز اور ہرا بھرا کرنا، باغ کو بہت درختوں اور سبزے والا کرنا۔ اَغَنَّ الشجرُ: درخت کا پکنا۔ الوادی: وادی میں درختوں کی بہتات ہونا، وادی کا بہت درختوں والی ہونا ۔۔ الروضَ: باغ کو سرسبز اور ہرا بھرا کرنا۔ الوادی الأَغَنّ م غَنّاء: بہت درختوں اور گھاس والی وادی۔ القریة الغَنّاء: آباد گاؤں۔

۲۔ غَنَّ ـَ غَنًّا و غُنَّة: ناک سے بولنا، زکام کے باعث ناک میں بولنا، ہُرُ ہُر کرنا۔ اَغَنَّ الذبابُ: مکھی کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بھنبھانا۔ ــ الرجلُ گم آواز نکلنا۔ الغُنَانِ مکھی کی بھنبھناہٹ الـغُـنَّة ناک میں سے نکلنے والی آواز۔ الأَغَنّ م غَـنَّاء ناک سے بولنے والا، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ اَغَنّ و امرأة غَـنَّاء و ظَبْیٌ اَغَنّ آدمی، عورت ہرن جو ناک سے آواز نکالے۔ اَغَنّ: حرف جبل سے غنہ کا حرف۔

◌ غ نّ متکلم کا صیغہ غَـنِـنْتُ ــ غُنَّة ناک سے بولنا۔ غُنَّة ناک سے نکلنے والی آواز، (شکایت یا افسوس کی) آواز جمع غُنَن۔ اَغَن م غَنَّاء ناک کا، ناک سے نکلنے والی (آواز) سریلی، دلکش، خوشگوار، پُر یا بلند (آواز) بہ افراط گھنا اور طراوت والا اور رنگارنگ سبزہ والا (باغ)

غنث غَـنِثَ ـ غَنَثًا الرجلُ سانس لے لے کر پینا۔ ت نفسُهٗ جی متلانا۔ تَـغَـنَّثَ هُ الشیئُ بوجھل ہونا، بھاری ہونا، سے چمٹنا۔

غنج: غَنِجَ ـ غَنَجًا و تَغَنَّجَ ناز و نخرہ کرنا صفت۔ غَنِج و مِغْنَاج مونث غَـنِـجَة و مِغْنَاج ج کل کے بعض ادباء غنو بھی کہتے ہیں الغُـنج و الغُنُج و الغُـنَـاج ناز و نخرہ الغِـنَـاج: جل جس کو عورتیں گودنے کے لئے استعمال کرتی ہیں۔ الأُغْنُوج جمع اغانیج ناز و نخرہ کرنے کی چیز

◌ غَـنِـجَ ـ غُنْجًا و تَغَنَّجَ (ت المراۃ) نخرے کرنا، ناز نخرے کرنا، عشوہ گر ہونا، ناز و ادا کرنا۔ غُـنُج عشوہ گری، دکھاوے کی محبت، ناز و نخرہ، ناز و ادا، چونچلے، جلوہ فروشی، اٹھلانا ـــ غَـنِجَة عشوہ گر، ناز نخرہ کرنے والی، ناز و ادا کرنے والی، چونچلے باز، جلوہ فروش، اٹھلانے والی۔ مِغْنَاج نازنین، دکھاوے کی محبت کرنے والی۔

غند: تَغَنْدَرَت المراۃُ بانکی، چھیل چھبیلی چال چلنا، چھیل چھبیلوں والا انداز اختیار کرنا، صفت مونث غَـنْـدُورَة مذکر غَـنْدُور (عام زبان میں) الغُـنْـدَر و الغُنْدُر من الغِلْمَان موٹا تازہ لڑکا۔ الغُنْدَر کا ناز نخرہ والی چال (عام زبان میں)

◌ غَـنْـدُر موٹا، گول مٹول، گداز بدن، غَـنْـدُور جمع غَـنَادِرة بانکا، چھیلا، چھیل، چھبیلا، تَـغَـنْدَرَ بانکا، چھیل چھبیلا ہونا۔

غَندَقجی اسلحہ ساز، بندوق ساز

غَنغرِینَا: جسم کا گلنا، فساد نسیج Gangrene

غنص: غَنِص ـ غَنَصًا تنگ سینہ والا ہونا۔

غنظ: غَنَظَ ـ غَنْظًا مرنے کے قریب ہونا قریب بہ ہلاکت کرنا۔ ـــ الامرُ فلانًا پر مشکل ہونا۔ ـــ و أَغْنَظَ ہُ کو غصہ سے بھر دینا۔ غَانَظَ پر سختی کرنا، ایک دوسرے کو مشقت میں ڈالنا۔ الـغَـنْظ و الغَنَظ و الـغَـنَـاظ و الغِناظ دقت لگا رہنے والا رنج و غم۔ المَغْنُوظ (مفع) غمگین

غنف: الـغَـنَافَلْيُون (ن) ایک پودا جس کے پیلے یا سفید پھولوں کے ہار بنا کر قبروں پر رکھے جاتے ہیں۔

غنم: غَـنِـمَ ـ غُـنْمًا الشیئَ کو مفت پانا۔ ـــ غُنْمًا و غَـنَـمًا و غَنِيمَةً و غُنْمانًا غنیمت حاصل کرنا۔ غَـنَّـمَ هُ کذا کو اس کے حصہ سے زائد دینا۔ اَغْـنَـمَ هُ الشیئَ کو (مال) غنیمت دینا۔ تَـغَـنَّمَ و اغْتَـنَـمَ و اسْتَـغْنَمَ الشیئَ کو غنیمت سمجھنا، سے فائدہ اٹھانا الغُنْم جمع غُنُوم و الغَنِيم و الغَنِيمة جمع غَنَائِم غنیمت جو جنگ میں حاصل کی جائے۔ (عموماً) کمائی، کہا جاتا ہے۔ غَـنِـيمَةٌ بارِدَةٌ غنیمت جو بغیر مشقت کے ملے۔ کہتے ہیں۔ الغُـنْـمُ بالغُرم کمائی غُـرم کے بالمقابل ہے چنانچہ جس طرح مالک کمائی کا اکیلا مالک ہوتا ہے۔ اور اسی میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہوتا اس طرح جرمانہ بھی اکیلے ہی برداشت کرتا ہے۔ الغَـنَّام بہت مال غنیمت حاصل کرنے والا۔ المَغْنَم جمع مَغَانِم غنیمت، کہا جاتا ہے۔ مَغْنَمٌ بارِدٌ یعنی اچھی غنیمت۔ غُـنَاماك ان یفعل کذا تمہاری کوشش کی انتہا یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو۔

۲۔ تَـغَـنَّـمَ فلان بکریاں حاصل کرنا۔ جیسے تَابَّلَ یعنی بہ اونٹ حاصل کرنا۔ الغَنَم جمع اَغْنام و غُنُوم و اَغَانِم (ح): بکریاں واحد شاۃ۔ غَـنَـمٌ مُغَنَّمَة و مُغَنَّمَة بہت بکریاں۔ الغَنَّام بہت بکریوں والا۔ بکریاں چرانے والا۔ بکریوں کا چرواہا۔

◌ غَنَمَ ـ غُنْمًا و غَنْمًا و غَنِيمَةً غنیمت حاصل کرنا۔ ـــ کو جنگ کے مال غنیمت کے طور پر حاصل کرنا، لینا۔ کو فتح کرنا، حاصل کرنا، پانا ـــ لوٹ مار کرنا، لوٹنا، تاخت و تاراج کرنا، غارت گری کرنا، چرانا، غبن کرنا، تباہ کر دینا۔ غَـنَّـمَ ہ کو کچھ بے غرضی سے دینا، کو کچھ عطا کرنا، کو کچھ مرحمت کرنا۔ اَغْنَمَ ہ کو کچھ بطور مال غنیمت دینا۔ اِغْتَنَمَ کو بطور جنگی مال غنیمت لینا، کو فتح کرنا۔ اِغْتَنَمَ الفُرْصَةَ: موقع سے فائدہ اٹھانا۔

اِسْتَغْنَمَ: موقع سے فائدہ اٹھانا۔

غنم: غنیمت، مال غنیمت، لوٹ کا مال، ناجائز آمدنی، نفع، فائدہ، کمائی، بخشش غنیمة باردة: آسان شکار۔ راض من الـغـنـیمة بالایاب: اپنی جان بچانے پر خوش۔ اقتنع من الغنیمة بالایاب: خالی ہاتھ لوٹنا پڑنا، کچھ کئے بغیر لوٹنا پڑنا۔ غانِم: کامیاب، عاد سالمًا غانِمًا وہ بخیر و عافیت لوٹا۔

غنو: الغُنْوَة بے نیازی کہا جاتا ہے لہٗ عنہ غُنْوَة اس سے بے نیاز ہے۔

غنی: غَنِيَ ـ غِنًى و غَنَاءً و غُنْيَانًا مالدار ہونا۔ ـــ بالشیئ من غیرہ دوسرے کی چیز پر ہی اکتفاء کرنا، پر ہی بس کرنا۔ غَـنَّـى تَغْنِيَةً ہُ اللّٰهُ اللہ کا کسی کو مالدار بنانا۔ اَغْنَى اِغْنَاءً الرجلَ کو مالدار بنانا۔ ـــ عنہ کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ اَغْنَـى عنہ غناء فلان و مَغْنَاه و مُغْنَاه و مَغْنَاتَه و مُغْنَاتَه کا قائم مقام ہونا۔ مـا یُغْـنِـی عنك هذا یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مـا اغنـی شیئًا اس نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ تَـغَـنَّـى تَغَنِّيًا مالدار ہونا۔ تَـغَانَى مالدار ہونا۔ ـــ القوم ایک دوسرے سے بے نیاز ہونا۔ اِغْتَنَى امیر ہونا امیر ہو جانا۔ اِسْتَغْنَى امیر ہونا یا ہو جانا اسْتَغْنَى اللّٰہَ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ اسے مالدار کر دے۔ ـــ عنہ بہ پر اکتفا کرنا۔ الغِنَى (مص): اکتفاء کفایت، دولت مندی کہا جاتا ہے: مالہٗ عنہ غِنًى اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں۔ لاغِنَى عنہ یہ ناگزیر ہے۔ ضروری ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ الغَناء: اکتفاء۔ دولت مندی، کفایت الـغِـنْـيَة و الغُنْيَة و الغُنْيَان کفایت۔ دولت، کہا جاتا ہے۔ مالہٗ عنہ غُنْيَةٌ و غُنْيَانٌ اس کے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لاغُنْيَةَ و غُنْيَانَ عنہ اس کے بغیر چارہ نہیں الغَنِيّ جمع اَغْنِيَاء دولت مند، مالدار، ملکی کہا جاتا ہے۔ هو غَنِيٌّ عنہ وہ اس سے مستغنی ہے۔ الغَانِي (فا): دولتمند، مالدار رجلٌ غانٍ عن کذا اس سے مستغنی آدمی الغَانِيَة جمع غَانِيَاتٌ و غَوَانٍ غانی کا مونث۔ حسن و جمال کی وجہ سے زیب و زینت سے بے نیاز عورت، مـالہٗ عنہ مَغْنًى اس کیلئے اس کے بغیر چارہ نہیں۔

۲۔ غَنِيَ ـ غِنًى الرجلُ شادی کرنا۔ ـــ ت المراۃُ: عورت کا خوبصورت ہونے کی وجہ سے بناؤ سنگھار سے بے نیاز ہونا۔ تَـغَـنَّـى تَـغْـنِـيَـات المراۃُ عورت کا شادی شدہ ہونا۔ الغانِيَة جمع غانيات و غَوَانٍ: شادی شدہ عورت۔

۳۔ غَنِيَ ـ غِنًى و مَغْنًى بالمکان میں ٹھہرنا، اقامت کرنا، صفت غانٍ کہا جاتا ہے غَنُوا بدیارهم ثم فَنُوا وہ اپنے گھروں میں ٹھہرے پھر فنا ہو گئے۔ ـــ فلان زندہ رہنا۔ المَغْنَى جمع مَغَانٍ: منزل رہنے کی جگہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جگہ۔ کہا جاتا ہے: خرجت مبانیھم و خلت مغانیھم ان کی عمارتیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور ان کے گھر خالی تھے۔

۴۔ غنی تغنیگانا۔ ـــ الشعرَ و بالشعرِ گانا، شعر ترنم سے پڑھنا یا گانا۔ ـــ بالمرأۃ عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ ـــ الشاعرُ بفلان شاعر کا کسی کی مدح کرنا یا ہجو کرنا۔ تغنی تغنیًا بالمراۃ و بالشعر و بفلان عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ شعر ترنم سے پڑھنا، کسی کی مدح کرنا، کسی کی ہجو کرنا۔ الغِناء من الصوت گیت، سر، راگ۔ الأغنِيَّة و الإغنِيَّة و الأُغنِيَة و الإغنِيَة جمع اَغانِی و اغانٍ گیت، سر، راگ۔ المُغَناۃ غنائیت (Opera)

۵۔ اغنی اِغناءً عن۔ کذا کو سے دور کرنا، ہٹانا، علیحدہ کرنا۔

⊙ غَنِیَ ـ غِنًی و غنًی حاجت سے آزاد ہونا۔ امیر ہونا، دولتمند ہونا، مالدار ہونا۔ غَنِیَ عن کی ضرورت نہ ہونا، کو چھوڑ سکنا، کے بغیر کام چلا سکنا، کے بغیر کر سکنا، کی ضرورت نہ ہونا۔ غنی ہ / ب کچھ گانا۔ ـــ ہ کو کچھ گا کر سنانا، ـــ ہ کو گنگنانا۔ ـــ ب کی مدح کرنا، کی تعریف کے پل باندھا، اَغنی کو احتیاج سے آزاد کرنا، کو امیر بنانا، کو مالدار بنانا۔ ـــ ہ / عن کے لئے کافی ہونا، کیلئے کارآمد ہونا، ممد ہونا، کو فائدہ دینا، مدد دینا، کام دینا۔ ـــ عن کیلئے کافی ہونا، کو قانع کرنا، مطمئن کرنا، راضی کرنا، کے لئے بدل ہونا، قائمقام ہونا، پاسنگ ہونا، ـــ ہ عن کیلئے کو غیر ضروری یا زائد از ضرورت بنانا ـــ عن کی کمی پوری کرنا، کا متبادل یا قائم ہونا۔ ـــ ہ عن کو سے نجات دلانا، سے بچاؤ دینا، سے نجات دلانا۔ ـــ عن ہ کو سے بچانا، کی سے حفاظت کرنا، کی کے خلاف مدد کرنا۔ ما اغنی (عنہ شیئًا) کے لئے کارآمد نہ ہونا، مفید نہ ہونا، فائدہ مند نہ ہونا۔ لایُغنِی فتیلا عن یہ کیلئے بالکل بے کار ہے۔ یہ کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ یہ ایک دمڑی کی بھی نہیں۔ تغنی ب کو گانا، گنگنانا۔ ـــ ب / ہ کی مدح کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا، اِعتنی ب کے ذریعہ امیر ہو جانا، مالدار ہو جانا۔ ـــ استغنی مالدار ہو جانا، دولت مند ہو جانا۔ ـــ عن کا ضرورت مند نہ ہونا، کے بغیر کام چلا سکنا، کو چھوڑ سکنا، کے بغیر کر سکنا، کا حاجتمند نہ ہونا۔ ـــ ب کے ساتھ کرنا، اہتمام کرنا، مطمئن ہونا۔ لایُستغنی عنہ ناگزیر، اٹل، واجبی، لابدی۔

غِنًی دولت، مرفہ الحال، تونگری، دولت کی بہتات۔ مال و متاع سیم و زر، تموّل۔ لاغِنی عنہ ل کیلئے ناگزیر۔ مالہ عنہ غِنًی وہ اس کو غیر ضروری سمجھ کر ترک نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے بغیر کام نہیں چلا سکتا۔ ھو فی غِنًی عنہ وہ اس کے بغیر کام چلا سکتا ہے، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کان فی غنی عن سے دست بردار ہونا، کو چھوڑ دینا، سے ہاتھ اٹھانا، کو غیر ضروری سمجھ کر ترک کرنا، کی کوئی ضرورت نہ ہونا، کو کرنے کی ضرورت نہ ہونا۔ غُنیَۃ: مالہُ عنہ غُنیَۃ بمعنی مالہُ عنہ غِنًی غَنِیّ جمع اغنیاء بہت زرخیز دولتمند، مالدار، خوشحال غنیُّ الحرب جنگ سے ناجائز نفع حاصل کرنے والا جنگی نفع اندوز۔ غنیّ عن البیان بدیہی، صاف ظاہر، خود تشریحی اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ (أن) غَناء دولت۔ مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، مال و متاع، سیم و زر، تمول۔ ـــ عن کیلئے افادہ۔ لا غناء فیہ بے کار مصرف، ناکافی، بے فائدہ لہ غناء عنہ و ھو فی غناء عنہ وہ اس کے بغیر کام چلا سکتا ہے، اُسے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ غِناء گانا، گیت، غِنائی گانے کا، الحانی۔ حَفلۃ غِنائیۃ نغمہ و سرود کا جلسہ، محفل سرود، سرود منڈی۔ اُغنِیۃ جمع أغنیات و اغانٍ گیت، شیریں نغمہ، دھن۔ غانِیۃ خوبصورت لڑکی یا عورت، حسینہ جمع غانیات و غوان۔ مُغَنٍّ گلوکار گانے والا۔ مُغَنِّیۃ گلوکارہ، گانے والی۔

غھب: غَھِبَ ـــ غَھَبًا و اَغھَبَ عنہ سے غافل ہونا، کو بھول جانا، الغَھَب مص کہا جاتا ہے اَصابَ الصید غَھَبًا اس کے ہاتھ شکار بلا ارادہ آ گیا۔ فَعَلَہ غَھَبًا وہ کام اس سے قصد کئے بغیر ہو گیا۔ الغَیھَب جمع غیاھِب غافل، کند ذہن اور کمزور آدمی۔

۲۔ اِغتھَب اندھیرے میں چلنا۔ الغَیھَب جمع غیاھِب تاریکی، بہت سیاہ گھوڑا، بہت تاریک رات، الغیھبۃ غیھب کا مونث الغُیھُبان تاریکی۔

۳۔ الغُیھُبان پیٹ۔ الغَیھَلۃ اونٹنی کا شور۔

غوث: غَاثَ ـ غَوثًا و أغاثَ اِغاثَۃً و مَغُوثَۃً ہ کی مدد کرنا، کہا جاتا ہے۔ اغاثنا اللّٰہُ بالمطر اللہ تعالیٰ نے بارش کر کے ہماری سختی دور کر دی۔ غَوَّثَ الرجُل مدد کیلئے چلانا۔ اِستغاثَ الرجُل و بہ سے مدد چاہنا۔ الغَوث مدد۔ خوراک وغیرہ کی مدد الغُواث و الغَوَاث مدد۔ الغِیاث و الغویث خوراک وغیرہ کی مدد۔ المَغاوِث پانی۔ اس کا واحد نہیں آتا۔

⊙ اِستغاثَ ہ / ب علی سے کے خلاف مدد کی اپیل کرنا، سے کے خلاف مدد چاہنا، مدد کے لئے پکارنا۔ غَوثۃ مدد کیلئے پکار، مدد غِیاثۃ اِغاثۃ: مدد۔ وکالۃ اِغاثہ اللاجئین (التابعۃ للامم المتحدۃ) اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکس کی ایجنسی (UNRWA) اِستغاثۃ مدد کی اپیل، مدد کے لئے پکار، مُغیث مدد کرنے والا۔ مددگار۔

غوج: غَاجَ ـ غَوجًا الغصن شاخ کا جھکنا، مڑنا اور دہرا ہونا۔ تَغَوَّجَ الغصن شاخ کا مڑنا۔ ـــ الرجُل فی مشیہ چال میں لچکنا۔

غور: غَارَ ـ غَورًا پستی کی طرف آنا۔ ـــ الماء پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ صفت غائر۔ ـــ غَورًا و غُؤُورًا ت عینہ اس کی آنکھ کا دھنس جانا۔ غَورًا و غُؤُورًا و غِیارًا فی الامر کسی معاملہ کو گہری نظر سے دیکھنا۔ ـــ فی الشئ میں داخل ہو جانا۔ ـــ غِیارًا و غُؤُورًا ت الشمس سورج کا غروب ہونا۔ غَوَّرَ پستی کی طرف آنا۔ ـــ الماء پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ ـــ ت الشمسُ او النجوم: سورج یا ستاروں کا غروب ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ غَوَّرَ النَھارُ: سورج کا ڈھل جانا۔ اَغارَ اِغارۃً پستی کی طرف آنا، زمین میں جذب ہو جانا۔ تَغَوَّرَ پستی کی طرف آنا۔ ظَاھِرُ العین آنکھ کا دھنس جانا۔ اِستَغَارَ الرجُل پنت زمین میں اترنے کا ارادہ کرنا۔ الغَار جمع اَغوار و غِیران کھوہ، غار۔ الغَارَان (ع ا): خانہ چشم کی ہڈیاں، اوپر نیچے کے تالو۔ الغائِرۃ۔ غائر کا مؤنث الغَور (مص) پست زمین۔ زمین میں جذب ہونے والا پانی۔ کھوہ، غار، گڑھا۔ ـــ فلانٌ بعیدُ الغَور فلاں گہری نظر رکھنے والا ہے۔ عرفتُ غور المسألۃ میں نے مسئلہ کی حقیقت معلوم کر لی۔ ماءٌ غَورٌ زمین میں جذب ہونے والا پانی۔ الغَورَی: ہر چیز کی گہرائی۔ المَغار و المُغار و المَغارَۃ و المُغاوَرۃ جمع مَغاوِر و مغارات کھوہ، غار، کہف۔

۳۔ غَارَ ـــ غَورًا الشئَ او القوم کو تلاش کرنا کو طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: غُرتَ فی غیر مُغَار: تم نے ایسی جگہ تلاش کیا جہاں وہ نہیں ہے غَوَّرَ القوم کو شکست دینا۔ غَاوَرَ مُغَاوَرَۃً العُدُوَّ دشمن پر حملہ کرنا، لوٹ ڈالنا۔ القوم ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اَغارَ اِغارَۃً تیز چلنا۔ ـــ اِغارَۃً و غَارَۃً و مَغارًا الفرسُ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ ـــ علیھم پر حملہ کرنا۔ ـــ بھم و الیھم کی مدد کیلئے آنا۔ تَغَاوَرَ القوم ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِستَغارَ علیھم پر حملہ کرنا۔ الغَار گرد و غبار، بڑا لشکر، الغَارَۃ (مص)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جمع غارات: لوٹ مار، غارت گری، اغارہ کا اسم۔ تیز غارت ڈالنے کیلئے گھوڑے کہا جاتا ہے۔ شَنَّ الغارة علیهم: غارت گری کیلئے گھوڑوں کو ہر طرف سے چڑھا لانا۔ الغَارَةُ الجَوِیّةُ: ہوائی حملہ۔ المَغَارَ و المَغَارَةَ جمع مَغَاوِر و مَغَارات: حملہ۔ المُغار: حملہ کی جگہ۔ ـــ و المُغارَة ج مَغَاوِر و مَغَارات: حملہ۔ المِغْوَار و المغاوِر من الرجال: چھاپہ مار، فرسٌ مِغوار: تیز رفتار گھوڑا۔

۳۔ غَارَ ـُ غَوْرًا الرجُلُ: دوپہر کو سو جانا۔ النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ غَوَّرَ الرجُلُ: دوپہر میں چلنا، اترنا یا سونا الـغَائِرَة: دوپہر، دوپہر کو سونا۔ الغَوْرَة دوپہر کا سونا۔ سورج۔

۴۔ غَارَ ـــ غِیَارًا لهم اللّٰهُ و غَارَهُمْ: اللہ تعالیٰ کا لوگوں کی رزق اور خیر سے مدد کرنا۔ اِغْتَارَ اِغْتِیارًا: نفع اندوز ہونا۔ غلہ حاصل کرنا۔ اِسْتَغْوَرَ اِسْتِغوارًا ہٗ: سے غلہ مانگنا۔ الغِوَر: خون بہا۔

۵۔ اَغَارَ اِغَارَةً الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ اِسْتَغَارَ الرجُلُ: موٹا ہونا۔ ـالجرحُ: زخم کا سوجنا۔ الغارَةُ: مضبوط جوڑوں والے گھوڑے۔ کہا جاتا ہے۔ حبلٌ شدید الغارة: مضبوط بٹی ہوئی رسی۔

۶۔ الغار: انگور کے پتے، رنخدان، غیرت۔ ـــ واحد غَارَةٌ (ن): ایک قسم کا درخت لارل پودہ (Laurel)

⊙ غَارَ ـُ غورًا فی: میں گھس جانا، اندر تک چلے جانا۔ غَارَ ـُ غورًا: (آنکھوں وغیرہ کا) کا اندر دھنس جانا۔ (پانی کا) رسنا، خارج ہونا، نکلنا، (چشمے کا) خشک ہونا۔ غَوَّرَ بمعنی غار ـُ غوراً۔ اَغَارَ: زمین میں سفر کرنا، ـــ علی: پر غارت گری کی غرض سے یلغار کرنا۔ دھاوا بولنا، یورش کرنا، ہلہ بولنا، پر چھاپہ مارنا، پر چڑھائی کرنا، حملہ کرنا، لشکر کشی کرنا، پر ٹوٹ پڑنا، کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنا، غور جمع اغوار: پیندا، تلا، تہہ، زمین کا نشیب، زمین کا جھکاؤ، کھڈ، گڑھا۔ گہرائی (مجازاً بھی)۔ بعیدُ الغور: گہرا، عمیق، اتھاہ، ناقابل فہم، غار جمع اغوار و غیران: کھوہ، گپھا، غار، کہف۔ غَارة جمع غارات: غارت گری، چھاپہ، چڑھائی، یلغار، حملہ، تاخت، یورش، دھاوا۔ ـــ علی: پر حملہ، ـــ: اونٹوں کی ایک رفتار، چال، غارة جَوِّیَة: ہوائی حملہ۔ غارات متواصلة او متوالیة: موجوں کی صورت میں حملے۔ شَنَّ غارَة علی: پر حملہ کرنا، پر حملہ شروع کرنا۔ مَغَار: کھوہ، غار، گپھا، کہف، مَغَارَة جمع مَغارات، مُغَاوِر و مغایر: کھوہ، گپھا، کہف۔ غار۔ مِغوار جمع مَغاوِیر: تیز، تیز رفتار، سبک رو گھوڑا، حملہ آور، جارح، بہادر، دلیر، جی دار، جری جمع مغاویر: کمانڈوز (Commandos) دہشت طاری کرنے والے دستے، اِغارَة جمع اغارات علی: پر حملہ۔ غَائِر: نشیب میں واقع، نشیبی، آنکھوں کا گڑھا، مُغِیر: حملہ آور، جارح، جارحیت کرنے والا۔

غوز: غَازَ ـُ غَوْزًاهُ: کا قصد کرنا الغاز جمع غازات (ل): گیس، پٹرول، تیل gas, patroleum,* oil۔ الغازات السامة: زہریلی گیسیں غازی: گیس کا، گیس جیسا، میاہ غازیة: کاربونیٹڈ واٹر، صحت بخش پانی، سوڈا واٹر، قدرتی چشموں کا پانی جس کا پینا مفید ہوتا ہے۔ mineral water۔ غازوزہ: سوڈا واٹر۔

غوص: ۱۔ غَاصَ ـُ غَوْصًا و غیاصًا غِیاصةً و مَغَاصًا فی الماء: پانی میں غوطہ لگانا۔ پانی میں اترنا۔ صفت غائِص جمع غوّاص و غَاصَة ـــ علی المعانی: معانی کی تہہ کو پہنچنا غَوَّصَ ہٗ فی الماء: کو پانی میں غوطہ دینا۔ کو پانی میں اتارنا۔

الغَوَّاص: بہت غوطے لگانے والا۔ موتی وغیرہ نکالنے کے لئے سمندر میں غوطہ لگانے والا (ح): پانی میں غوطہ لگانے والا پرندہ۔ الغَوَّاصة غَوّاص کا مونث (اع): آبدوز کشتی، میرین کشتی الغِیَاصة: غوطہ خور کا پیشہ، غوطہ خوری (پیشہ) المَغَاص (مص) جمع مَغَاوِص: غوطہ لگانے کی جگہ۔

۲۔ غَاصَ ـُ غَوْصًا و غیاصًا و غِیاصَةً و مَغَاصًا علی الشيء: پر حملہ کرنا۔

۳۔ المَغَاص جمع مَغَاوِص: پنڈلی کا اوپر کا حصہ۔

⊙ غَاصَ ـُ غَوْصاً و مَغَاصًا و غِیاصًا و غیاصَةً فی: میں غوطہ مارنا، غوطہ لگانا، تہ آب ہونا، میں سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا ہونا۔ ـــ علی: کے لئے غوطہ لگانا۔ ـ: موتی نکالنے کا کام کرنا۔ غَوَّصَ ہٗ فی: کو میں غوطہ دینا، کو میں زور سے پھینکنا یا گھسیڑنا، دھکیلنا، تہہ آب کرنا، سر سے پیر تک بھگونا۔ غوِیص: گہرا، غَوَّاص جمع غَوَّاصُون: غوطہ زن، غوطہ خور، موتی نکالنے کے لئے غوطہ زنی کرنے والا۔ غَوَّاصَة جمع غوَّاصات: آب دوز، مغاص اللؤلؤ: موتیوں کے لئے غوطہ خوری، غوطہ لگا کر موتی نکالنا۔

غوط: غَاطَ ـُ غَوْطًا الحفرةَ: گڑھا کھودنا، ـ فیه: میں داخل ہونا، میں دھنسا کہا جاتا ہے۔ هذا رمل تغوط فیه الاقدام: اس ریت میں پاؤں دھنس جاتے ہیں۔ ـ فی الماء: پانی میں غوطہ لگانا۔ غَوَّطَ البئرَ: کنویں کو گہرا کھودنا۔ تَغَوَّطَ: پاخانہ کرنا، رفع حاجت کرنا۔ تَغَوَّطَ و بَالَ: اس نے پیشاب پاخانہ کیا۔ تَغَاوَطا فی الماء: ایک دوسرے کو غوطہ دینا الغاط جمع غُوط و اَغْواط و غِیاط و غیطان: پست زمین۔ الغائط (فا): پست زمین، رفع حاجت کی جگہ، پاخانہ۔ الغَوْط و الغَوْطَه جمع غُوْط و اَغْوَاط و غِیَاط و غِیطان: پست زمین۔ الغُوطة: بہت پانی اور درختوں والی جگہ۔ بئر غَوِیْطة: گہرا کنواں۔

۲۔ غَوَّطَ الطعَامَ: کھانے کے بڑے بڑے لقمے نگلنا۔

۳۔ اِنْغَاطَ العودُ: لکڑی کا مڑنا۔

۴۔ الغَاط: جماعت، گروہ۔

⊙ غَوَّط ہ: (کنواں) گہرا کرنا، گہرا کھودنا۔ تَغَوَّطَ: رفع حاجت کرنا۔ غَوْط جمع غُوط و اَغْوَاط و غِیَاط و غِیْطان: خلا، گڑھا، وادی، نشیب کھڈ۔ الغُوطة: دمشق کے جانب جنوب ایک سرسبز و زرخیز مقام۔ غَوِیط: گہرا۔ غائط: پاخانہ غُوطی: قوطی (Gothic)

غوغ: الغَاغ (ن): پودینہ واحد الغَاغَة: بہت سے گھلے ملے لوگ۔ الغَوْغاء: وہ ٹڈی جس کے پر نکل آئے ہوں یا اڑنے کیلئے تیار ہو۔ بہت سے مختلف لوگ، کمینے لوگ شر پسند لوگ۔ شور و غل (عوام کی زبان میں)

⊙ غَاغَة: بے ترتیب مجمع، رزیلوں کی ٹولی، نیچ ذات کے لوگ، گنوار۔ آواز، شور، ہنگامہ، شور و غل، غل غپاڑہ، شور و غوغا، ہنگامہ، غوغا بمعنی غاغة

غوف: الغوافة (ن): ایک قسم کا درخت، اس درخت کا پھل۔

غول: ۱۔ غَالَ ـُ غَوْلًاہٗ: کو ہلاک کر دینا، اچانک بے خبری میں پکڑ لینا۔ ـتہُ الخمرُ: شراب کا پینے والے کو مدہوش کرنا۔ تَغَوَّلَتِ الارضُ بفلان: زمین کا کسی کو ہلاک کرنا، بے راہ کرنا۔ ـــ ت الغیلانُ القومَ: چھلاوہ کا لوگوں کو منزل سے بھٹکا دینا۔ اِغْتَالَ اِغْتِیالاہٗ: کو ہلاک کرنا، اچانک پکڑ لینا۔ کو قتل کر دینا، مار ڈالنا۔ الغَائِلة جمع غَوَائِل: غائِل کا مونث۔ مصیبت، ہلاکت، شر، فساد۔ الغَوْل (مص): دردسر، مدہوشی، ریگستان کی دوری، مشقت۔ الغُول جمع اغوال و غِیلان: مصیبت۔ ہلاکت۔ چھلاوہ، غول بیابانی / ہر وہ چیز جس سے عقل زائل ہو۔ موت۔ الغضب غول الحکم: غصہ سے انصاف نہیں ہوتا۔ (ن) سانپ۔ الغِیلَة اغتیال کا اسم ہے۔ المغُول: ہلاک کرنے کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آلہ۔ لمبی پیکان۔ لاٹھی جس کے اندر پتلی سی تلوار ہوتی ہے۔ گپتی۔ المَغَالة: ہلاکت۔

۲۔ غَاوَل مُغَاوَلَةً: جلدی چلنا، تَغاوَلا: ایکدوسرے سے سبقت کرنا۔

۳۔ تَغَوَّلَتِ المرأة: متلون ہونا۔ ــــ الامرُ: معاملہ کا ابتر ہونا۔ ــــ الغُول جمع اغوال: گونا گوں شکلیں اختیار کرنے والا جادوگر اور جن۔

۴۔ الغَال جمع غالات: قفل، تالا (فارسی) الغَوْل: بہت مٹی، پست زمین۔ الاَغْوَل من العیش: آسودہ زندگی

غَالَ ـُ غَوْلًا ہ/ ھ کو بے خبری میں لے جانا، چھیننا، پکڑنا، ہتھیانا، زبردستی چھیننا، ـ ہ: کو مار ڈالنا، ہلاک کر دینا۔ اغتال بمعنی غَالَ نیز اِغْتَالَ ہ: کو دھوکے سے قتل کرنا قتل کرنا، غال جمع غالات: تالا، قفل، غُوْل (عموماً مونث) جمع اَغْوال وغیلان: غول بیابانی، ریگستانی بھوت جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ بھوت پریت، آسیب، بدروح، جن، بھتنا، پری، جن، آدم خورد (جن)، ہم جنس خور (حیوان) مصیبت، آفت، تباہی، غِیْلَةَ: دھوکے سے قتل قتلہُ غِیلَةً: کو دھوکے سے قتل کر دینا۔ اِغْتِیال جمع اغتیالات: قتل، قتل کرنا، دھوکے سے کیا جانے والا قتل، غَائِلة جمع غَوَائِل مصیبت، آفت، تباہی، بربادی، خطرہ۔

غوی: ۱۔ غَوَی ـِ غَیًّا و غَوِیَ یَغْوَی غَوَایةً: گمراہ ہونا، ناکام و محروم ہونا۔ ــــ الرجُلَ: کو گمراہ کرنا۔ غَوَّی و اَغْوَی الرجُلَ: کو گمراہ کرنا، تَغَاوَی: گمراہ اور جاہل بننا۔ اِنْغَوَی الرجُلُ: گرنا، جھکنا، اِسْتَغْوَی الرجُلَ: کو گمراہ کرنا، کی گمراہی کا طالب ہونا، کہا جاتا ہے۔ استغواه بالامانی الکاذبة: کو جھوٹی امیدوں سے گمراہ کیا۔ الغَاوِی جمع غَاوُون و غُوَاة فا ــــ (عندالعامة:) جو بنا ٹھنا رہنا پسند کرے۔ ــــ والغوِی والغَیَّان: گمراہ، خواہش پرست کہا جاتا ہے۔ الغاوِیة: غاوی کا مونث کہا جاتا ہے بتُّ غَوِّی و مُغْوِیًا و مُغَوِّیًا و مَغْوِیاً: میں نے رات اکیلے گزاری، الغوِی: گمراہ، خواہش پرست کہا جاتا ہے۔ بتُّ غَوِیًّا: میں نے رات اکیلے گزاری الغَیَّة والغِیَّة: گمراہی، کہا جاتا ہے۔ انہ ولدُ غَیَّةٍ: وہ حرام زادہ ہے، ولد الزنا ہے۔ المَغْوَاة جمع مَغَاوٍ والمُغَوَّاة جمع مُغَوَّیات: گمراہی کی جگہ، کہا جاتا ہے۔ حَفَرَ لاَخِیهِ مَغْوَاةً: اس نے اپنے بھائی کو مشکل میں ڈال دیا۔

۲۔ غَوَی ـِ غَیًّا: ہلاک ہونا۔ غَوِّی الفصیلُ: اونٹ کے بچہ کو بدہضمی ہونا اور لاغری سے قریب بہ ہلاک ہونا صفت: غَوٍ۔ غَوِیَ بَغْوَی غَوَایَةً: ہلاک ہونا۔ ـ غَویً الفصیلُ بمعنی الفصیل صفت: غَوٍ ـ تَغَاوَی القومُ علیه: کے خلاف اس کو قتل کرنے کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کی اصل غَوَایَة یا غَیّ: ہے الاُغْوِیَّة جمع اَغَاوِیّ: مصیبت، ہلاکت، (کہا جاتا ہے: وقع الناسُ فی اُغْوِیَّةٍ: لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔) درندوں کے شکار کے لئے گڑھا۔

۳۔ رَأسٌ غاوٍ: چھوٹا سر یا بہت زیادہ ادھر ادھر رخ پھیرنے والا سر۔ الغاوِیة: پانی سے بھری ہوئی مشک

غَوَی ــ غَیًّا و غَوَایةً: سیدھے راستہ سے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، (اپنے کاموں میں) غلطی کرنا۔ ــــ ہ: کو گمراہ کرنا۔ ــــ ہ ب: کو پر بہکانا، کو کچھ کرنے پر ورغلانا، کو کی ترغیب دینا، کو پر اکسانا، ابھارنا، کو کی رغبت دلانا، کو کا لالچ دینا، کو پر للچانا، پھسلانا، کو لالچ دے کر کسی کام میں پھانسنا غَوِیَ ـَ: للچانا، حرص کرنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا، پسند کرنا، غَوَّی ہ: کو گمراہ کرنا، ترغیب دینا، رغبت دلانا، ورغلانا، لالچ دینا، اَغْوَی بمعنی غَوَّی اِستَغْوَی ہ: کو گمراہ کرنا۔ ــ ہ ب: کوئی طمع دینا، کو سے ورغلانا، بہکانا، کو سے للچانا ورغلانا، پھسلانا، ترغیب دینا، کو سے لبھانا، کو سے چارہ دینا، کو سے دانہ ڈالنا، کو سے جال میں پھانسنا، کو سے دام میں گرفتار کرنا، کو سے دھوکا دینا، کو سے جیتنا، کو سے آمادہ کر لینا، کو سے اپنے اوپر مہربان کر لینا۔ غَیّ: مداخلت، خلاف ورزی، حد سے تجاوز، جرم، غلطی گناہ، ترغیب، بہکاوا، تحریص، لالچ، حرص کا پھندا، لالچ، لبھاؤ، غَیَّة و غِیَّة جمع غَیَّات: غلطی، گناہ، پسند، ذوق غَوَایَة: غلطی، گناہ، ترغیب تحریص، بہکاوا، لبھاؤ، لالچ۔ اُغْوِیة جمع اَغاوِی: دھوکے کی جگہ، جنگلی جانوروں کو پکڑنے کا گڑھا۔ پھندا، دام، جال، جانور پکڑنے کا پنجرا، بند گڑھا۔ اِغواء: بہکاوا، ترغیب، اغوا، تحریض، لالچ، حرص کا پھندا ــ غاوٍ: ترغیب دینے والا۔ تحریص دینے والا، لالچ دینے والا، بہکانے والا جمع غُوَاة: شائق، شوقین، رسیا، عاشق، فنون لطیفہ کا شائق، فن میں شدید شوق رکھنے والا اناڑی، دل بہلاوے کے لئے کام کرنے والا مُغَوَّاة جمع مُغَوَّیات: جنگلی جانوروں کو پکڑنے کا گڑھا، دھوکے کی جگہ، دام، جال۔

غَنّی ھ (جھنڈا) اونچا کرنا۔ غایة جمع غایات انتہائی [illegible]

ــ لغایة: کی حد تک۔ کان غایة فی الجمال: غیر معمولی حسن ہونا۔ الغایة بتبرر الواسطة: مقصد ذرائع کا جواز فراہم کرتا ہے۔ الطلق لغایة: منزل مراد کیلئے روانہ ہونا۔ غائیة: کائنات میں ایک علت العمل کے وجود کا عقیدہ

غیب: غَابَ ـِ غَیبًا و غَیْبَةً و غِیابًا و غُیُوباً و مَغِیبًا عنهُ: سے دور ہونا، جدا ہونا۔ ــــ غِیَابًا و غُیُوبَةً: غیر حاضر ہونا۔ ــــ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا۔ الشیُ عَنْ فلان: سے پوشیدہ ہونا۔ ـ عن بلاده: سے سفر کرنا۔ ــ غِیابًا و غَیَابًا و غِیبةً و غِیَابَةً و غُیُوبَةً الشیُ فی الشیء: ایک چیز کا دوسری چیز میں پوشیدہ اور چھپا ہوا ہونا۔ ــــ غَیْبَةً واغْتَابَ اِغْتِیَاباً ہُ: کی عیب گیری کرنا، غیبت کرنا۔ غَیَّبَ ہُ: کو دور کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ غَیَّبَهُ غَیَابُهُ: وہ اپنی قبر میں مدفون ہوا۔ غَایَبَ مُغَایَبَةً ہُ: سے غائبانہ کہنا۔ کہا جاتا ہے۔ اَنا مَعَکُمْ لا اُغَایِبُکُمْ: میں تم سے مخاطب ہوں۔ اَغَابَ القومُ: غروب آفتاب کے وقت آنا۔ ـ ت المراۃُ: عورت کے خاوند کا غائب اور غیر حاضر ہونا صفت مُغِیب و مُغِیْبَة و مُغْیِب تَغَیَّبَ عنه: سے غائب ہونا۔ تَغَایَبَ القومُ: غائب ہونا۔ الغَائِب جمع غَیَب و غُیَّب و غُیَّاب و غائبون: فا۔ غائبُك: جو آپ سے غائب ہو۔ الغَابَة جمع غابٌ و غَابَات: پست زمین۔ بانس کی جھاڑی۔ جنگل۔ لمبا نیزہ لوگوں کی جماعت۔ غَابَةُ البحر: مَتَحَجر سمندری کیڑوں کے جمع کرنے کی جگہ۔ الغَیَاب (مص): قبر۔ غَیَابُ الشجر: درختوں کی جڑیں۔ الغَیَابَة: قبر، پست زمین ـ من کل شیء: پردہ ہر چیز جو آپ کو چھپائے۔ ـ من الوادی او الجبّ: وادی یا کنویں کی گہرائی۔ الغَیْب (مص): جمع غِیَاب و غُیُوب: شک۔ غائب اور پوشیدہ چیز، راز۔ بھید۔ پست زمین کہا جاتا ہے۔ سمعت صوتاً من وراء الغیب: میں نے ایسی جگہ سے جو مجھے نظر نہیں آتی تھی آواز سنی۔ الغَیْبَة: قبر، پست زمین الغِیْبَة: عیب گیری، غیبت۔ الغَیَّاب غائب کا اسم مبالغہ غَیَابُ الشجر: درخت کی جڑیں۔ الغَیُوب: غائب کا اسم مبالغہ الغَیْبُوبة: غروب۔ کہا جاتا ہے۔ لقیتُهُ عند غَیْبُوبة الشمس: میں اسے غروب آفتاب کے وقت ملا۔

غَابَ ـِ غَیْبًا و غَیْبَةً و غَیَابًا و غَیْبُوبَة و مَغِیبًا: غیر حاضر ہونا، پار ہنا، دور ہونا یا رہنا، ــ عن: سے غیر

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حاضر ہونا، سے ہٹ جانا، چلے جانا، کو چھوڑ دینا، کی
نظروں سے اوجھل ہوجانا، سے غائب ہوجانا۔ غاب عن
الشیئ: میں گم ہونا، میں نظر سے اوجھل ہوجانا، میں نگل
جانا۔ عن: سے چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ مغیبا:
(سورج ستاروں وغیرہ کا) غروب ہونا۔ غاب
الشیئ عن بالہ: معاملہ اس کی یادداشت سے نکل گیا،
وہ معاملہ کو بھول گیا۔ غاب عن صوابہ: بیہوش ہو
جانا۔ غش کھاجانا۔ غاب عن الوجود: بیہوش ہونا۔
تغیب عنہ الشمس: یہ تاریکی کے پردہ
میں چھپی ہوئی نہیں۔ غیبہ: کو لیجانا، دور کرنا، کو
غائب کرنا، کو نظروں سے اوجھل کردینا۔ ہ عن:
کو سے چھپانا۔ ہ: کو سب کچھ بھلا دینا، کو ہر شے
سے غافل کردینا۔ غیبہ عن الوجود: کو ذہن سے
نکال دینا۔ غیبہ الثری: زمین نے اُسے سے،
ڈھک دیا، دفن کردیا۔ تغیب عن: سے غیر حاضر
ہونا، دور ہونا، دور رہنا۔ تغیب: حاضر نہ ہونا، وہاں نہ
ہونا۔ عن: (کام یا مدرسے) سے بھاگ جانا۔
اغتابہ: پر تہمت لگانا کی غیبت کرنا۔ غیب: غیر
حاضری، غیر موجودگی چھپا ہوا، پوشیدہ، غیر مرئی، جمع
غیوب: وہ جو چھپا ہوا، پوشیدہ ہے اور نظر نہیں آتا۔ وہ
جو حواس سے پرے اور ماورائے عقل ہے۔ مافوق
الفطرت آسمانی یا خدائی رؤیا عن ظہر
الغیب: دل سے، حافظہ سے۔ علام الغیوب: اللہ
تعالیٰ جو نظر نہ آنے والی اور حواس اور عقل سے ماوراء
باتوں کو مکمل طور پر جانتا ہے۔ عالم الغیب: نظر نہ
آنے والی دنیا۔ بظہر الغیب: پیٹھ پیچھے، چپکے چپکے،
دھوکے سے۔ نظر بعین الغیب الی: کو پہلے سے
بھانپ لینا، کی پیش بینی کرنا۔ سے پہلے سے واقف
ہونا۔ غیبی: مخفی، پوشیدہ، غیر مرئی، حکم غیابی:
یکطرفہ فیصلہ Judgement by default
غیابیا: غیر حاضری میں۔ مغیبات: بیہوش کرنے
والی دوائیں یا نشے کی چیزیں سن کرنے والی، مخدر
دوائیں۔ المغیبات: پوشیدہ، حواس اور عقل سے
ماوراء، خدائی باتیں۔ غیتو: Ghetto شہر کا یہودی علاقہ
غیث: غاث ـ غیثا اللہ البلاد: (اللہ تعالیٰ کا) ملک
پر بارش برسانا۔ غیث الارض: زمین پر بارش ہونا۔
ایسی زمین غیثۃ و مغیوثۃ کہلاتی ہے۔ غیث
البعیر: اونٹ کا موٹا ہونا۔ غیث: غیوث
واغیاث: بارش، کبھی بادل کو بھی غیث کہتے ہیں۔
بارش کے پانی سے اگنے والی گھاس۔ کہا جاتا ہے۔
رعینا الغیث: ہم نے مویشیوں کو برسات سے اگے
ہوئے پودے چرائے کہا جاتا ہے۔ غیث مغیث:
عام بارش۔ سحاب غیث: بہت بارش برسانے والا
بادل۔ بئر ذات غیث: بہت پانی والا کنواں۔
غاث ـ غیثا النور: نور کا روشن ہونا۔
غاث ـ غیثا ہ: کو بارش کا پانی دینا۔ ہ: (اللہ
تعالیٰ کا) کسی شخص یا چیز پر بارش بھیجنا۔ غیوث
واغیاث: (بہت) بارش۔

غید: غید ـ غیدا الغلام: لڑکے کا جھکی ہوئی گردن
والا ہونا، نرم کندھوں والا ہونا، صفت اغید،
صفت مونث غیداء جمع غید۔ تغاید فی مشیتہ:
نزاکت کی وجہ سے چلنے میں جھکنا۔ الغید (مص):
نزاکت۔ الاغید: نرم و نازک۔ الغیدان: اغید:
بہت نباتات والی جگہ۔ الغادۃ: جمع غادات: نازک
و نرم اندام عورت، ترو تازہ درخت۔ غیدان الشباب:
آغاز جوانی۔

غید: غید غید: جلدی کرو، جلدی کرو۔

غیدق: غیدق المطر: بارش بہت برسنا۔ الغیداق: سرسبز،
فیاض۔ الغیدق و الغیدقان: نرم و نازک و ملائم
تغاید: عشوہ طرازی سے لپک کر چلنا۔ نزاکت،
نازک خوبصورتی، نرمی، ملائمت، (عورت کی) ادا
غیدان: نوجوان لڑکی، نوجوان خاتون۔ الغید:
نوجوان خواتین۔ غیدہ م غیداء جمع غید: نوجوان
اور نازک۔

غیر: غار ـ غیرۃ و غیرا و غارا الرجل علی
امراتہ من فلان و ھی علیہ من فلانۃ: آدمی
کا اپنی بیوی پر کسی اور مرد سے اور عورت کا اپنے خاوند
پر کسی اور عورت سے) غیرت کرنا۔ صفت غیران
و غیور و مغیار صفت مؤنث غیری و غیری: جمع
غیاری و غیاری و غیر و مغایر۔
الغیرۃ: اغار اغارۃ: کو غیرت پر ابھارنا، کی
غیرت کو برانگیختہ کرنا۔ اغار الرجل امراتہ: مرد کا دوسری
شادی کرکے پہلی بیوی کو غیرت دلانا۔ تغایر علی
امراتہ: عورت پر غیرت کرنا۔ تغایر الزوجان:
ایک دوسرے پر غیرت کرنا۔ الغیرۃ جمع غار: کا
اسم۔ غیرت نخوت۔
غار ـ غیارا ہ: کو نفع دینا۔ کہا جاتا ہے غاروۃ بخیر
کو خیر کا نفع دینا۔ غارھم اللہ بمطر: اللہ تعالیٰ کا
لوگوں کو بارش سے سیراب کرنا۔ غیرا و غیرۃ:
کو خون بہا دینا۔ اغتیار اغتیارا الرجل: رسد مہیا
کرنا، غلہ مہیا کرنا۔ الغیرۃ جمع غیر: خون بہا، گندم کا
الغیر و المغیور: بارش سے سیراب شدہ جگہ۔
مکان مغیر و مغیور و ارض مغیرۃ و مغیورۃ:
بارش سے سیراب شدہ جگہ، زمین۔
غیر الشیئ: کو بدل دینا، تبدیل کرنا۔ تغایر غیارا
و مغایرۃ ہ: سے تبادلہ کرنا، کی مخالفت کرنا، سے بیع
میں مقابلہ کرنا، کا غیر ہونا۔ تغیر: بدل جانا تبدیل ہو
جانا۔ تغایرت الاشیاء: مختلف ہونا۔ غیر: جمع
اغیار: غیر کا اسم۔ کہا جاتا ہے من یکفر باللہ
یلق الغیر: جو اللہ تعالیٰ کا کفر کریگا۔ اس کی حالت
خراب ہوجائیگی۔ قلت غیرا: جھوٹ و باطل کہا۔ غیر:
سوا، جمع اغیار۔ جاء غیرھم: ان کے سوا،
علاوہ اور لوگ آئے۔ جاء القوم غیر فلان: فلاں
کے سوا سب لوگ آئے۔ یہاں غیر منصوب ہے۔ اور
مستثنیٰ بھا ہے اور فلاں مضاف ہے۔ اور بمعنی لا ہوتو
حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ جیسے
اضطر غیر باغ ولا عاد: غیر باغ: لا باغیا
ہے اور الا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس صورت میں
اسم ہوتا ہے اور معنی اضافت کے ساتھ ہوتا ہے اور
اس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں تو لفظی طور پر اس سے
منقطع ہوجاتا ہے اور اس سے پہلے لیس یا لا آتا ہے
اس معنی اضافت کے وقت رفع اور نصب جائز
ہے۔ آپ کہتے ہیں قبضت عشرۃ لیس غیرھا
ولیس غیرھا: میں نے دس سے زیادہ نہیں لئے
مضاف الیہ کے محذوف ہونے کی صورت میں رفع۔
ضم نصب اور فتح جائز ہے۔ اس صورت میں آپ کہتے
قبضت عشرۃ لیس غیر و لیس غیر و لیس
غیرا و لیس غیر: یعنی قبضت الا ہوتا ہے۔ کہا
جاتا ہے فعلہ غیر مرۃ: اس نے وہ کام ایک سے
زائد مرتبہ کیا۔ غیر الدھر: حوادث زمانہ۔ جمع غیرۃ۔
غیریۃ: کے خلاف یعنی دو چیزوں میں سے ہر ایک کا
ایک دوسرے کے خلاف ہونا۔ ایثار، ایثار پیشگی، بے
غرضی (altruism)
الغبیراء (دیار) ایک قسم کا پودا۔
غار ـ غیرۃ من: سے حسد کرنا۔ علی: کے لئے
مقابلہ کرنا۔ کے لئے جوش یا سرگرمی کا مظاہرہ کرنا۔ کا
علی من: کی سے غیرت میں آکر حفاظت کرنا، کو سے
غیرت مندی کیساتھ بچائے رکھنا۔ غیر ہ / من
کو تبدیل کرنا، بدلنا، ترمیم کرنا۔ تغایر مغایرۃ ہ: کے
مقابل ہونا۔ سے نمایاں فرق رکھنا۔ مختلف ہونا،
غیر مشابہ ہونا۔ ہ: کسی شخص یا چیز سے بالکل مختلف
ہونا۔ بدلنا: کو تبدیل کرنا (جیسے لباس تبدیل کرنا)۔
بین: کے مابین اولا بدلی کرنا۔ ہ: سے بول تول

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا۔ سے سودا کرنا، سے معاملہ کرنا، سے خریدتے
وقت تکرار کرنا، کے خلاف مقابلہ میں حصہ لینا، سے
مقابلہ کرنا۔ غارَہٗ: کو غیرت دلانا۔ تغیّر: بدلنا،
تبدیل ہونا، مختلف ہونا۔ تغایر: مختلف ہونا، مختلف
العناصر ہونا۔ غیر: کے علاوہ، سے مختلف، نئے انداز
کا، نہیں، نہ غیر، بمعنی dis, in, un, non۔ غیرُ:
کے سوا، کے سوائے، ماسوا اس کے۔ الغیر: دوسرے
لوگ، ساتھی، پڑوسی، وغیرہ۔ وغیر ذٰلک: وغیرہ اور
دوسرے لوگ اور دوسری چیزیں۔ لا غیر: اور بس
غیر: یہی سب ہے۔ فقط، بس اتنا ہی۔ کچھ اور نہیں،
صرف۔ غیر اَنَّ: مگر یہ کہ، بہر حال، اس کے باوجود،
لیکن، مگر بہر صورت، بہر کیف۔ غیر واحدٍ: ایک
سے زائد، کئی۔ غیر مرّةٍ: ایک سے زیادہ دفعہ، بسا
اوقات، کئی بار، اکثر بیشتر۔ من غیر۔ بغیر: کے بغیر،
بی غیر (ما) کے بغیر۔ غیر تروٍ: بلا سوچے، بلا
جھجک۔ فی غیر مَا تهیّب: بلا خوف۔ علی غیر
معرفة منه۔ من غیر علم منه: اس کے علم کے
بغیر، اس کے جانے بغیر، بے جانے بوجھے، نادانستہ
طور پر۔ غیری: بے غرض۔ غیریّة: ایثار، بے نفسی،
دوسروں کی بہبود کا جذبہ۔ غیرُ الدهر: قسمت یا زمانہ
کے نشیب و فراز۔ غیرة: حسد، غیرت، سرگرمی، شوق،
جوش، ولولہ، چوکسی فکرمندی، تشویش، سنجیدہ تعلق،
علی: کیلئے پریشانی، غیرت مندی، خودداری، احساس
عزت۔ غیور ج غُیُر: بہت حاسد، پرجوش، سرگرم،
متمنی، شوقین، مشتاق، خواہشمند، بے قرار، سنجیدگی سے
فکرمند، پریشان۔ غیار: تبادلہ، ادل بدل، اولا بدلا،
تبادلہ اشیاء، چیز کے بدلے چیز، بدل، قائم مقامی،
جانشینی عوض۔ ج غیارات: زخم پر باندھنے کی پٹی، زخم
کی مرہم پٹی۔ قطع الغیار: زائد پرزے (Spare
parts)۔ مغایر للاداب: نازیبا، فحش، ناشائستہ،
غیر اخلاقی۔ متغیّر: تغیر پذیر، متلون۔ تیار متغیر:
الٹی رو، بدلی رو، اے سی (بجلی) Alternating
crrent۔
غیض: غاضَ یغیضُ غیضًا و مَغاضًا الماءُ: پانی کا
کم ہونا، نیچے اتر جانا۔ الثمنُ: قیمت کا گھٹنا۔ الماءَ
او الثمنَ: پانی یا قیمت کو کم کرنا۔ دمعَهُ: آنسو
روکنا۔ غیّضَ و اَغاضَ الماءَ او الثمنَ: پانی یا
قیمت کو کم کرنا۔ دمعهُ: آنسو روکنا۔ تغیّضَ و انغاض
الماءُ: پانی کا کم ہونا، نیچے چلا جانا، نیچے اتر جانا۔
الثمنُ: قیمت کا کم ہونا، گھٹ جانا۔ الغیض (مص)
اسقاط شدہ بچہ، کم، تھوڑا کہا جاتا ہے۔ هذا غیضٌ

من فیض: یہ بہت میں سے تھوڑا ہے۔ الغیضة جمع
غِیاض و اَغیاض و غیضات: غاض سے اسم مرة:
پانی جمع ہونے کی جگہ میں درختوں کا جھنڈ، جھاڑی
بن۔ المَغیض ج مَغایض: جوہڑ، کہا جاتا ہے۔
ماءٌ مَغیضٌ: پانی جس کا نکاس جوہڑ میں ہو۔
غاضَ ــــ غَیضًا و مُغاضًا: کم ہونا، گھٹنا، سمٹنا،
غاضَ لونُهُ: اس کا رنگ سفید پڑ گیا، وہ پیلا زرد
ہو گیا۔ غَیض: وقت سے پہلے پیدا ہونے والا رحم مادر
کا بچہ۔ غَیضة ج غَیضات و غِیاض و اَغیاض:
درختوں کا جھنڈ، جنگل۔
غیط: غاطَ ــِ غَیطًا فیه: میں داخل ہونا۔ الغَیط: باغ۔
المُغایِطة: خصومت، جھگڑا کہا جاتا ہے: بینهم
مُغایطةٌ: ان کے مابین جھگڑا ہے، اور تو تو میں میں
ہے۔
غَیط ج غِیطان: میدان (Field)
غیظ: غاظَ ــِ غَیظًا و غَیَّظَ و غایَظَ و اَغاظَهُ: کو
غصہ دلانا۔ کہا جاتا ہے غایَظَ صاحبَهُ فی
العمل: اس نے کام میں اپنے ساتھی سے مقابلہ کیا اور
اس پر غالب آیا۔ تغیّظ: غصہ ہونا۔ ناراض ہونا۔
الحرّ: گرمی کا تیز ہونا۔ اغتاظ: غصہ ہونا۔ ناراض
ہونا۔ الغیظ (مص): غصہ یا سخت غضب طیش تاؤ
فور ناراضگی۔ غیاظ: غم، مشقت۔ المَغیظ:
ناراض، بھڑکایا ہوا، طیش دلایا ہوا، غضبناک کیا ہوا۔
غصہ دلایا ہوا۔
غاظَ ــِ غیظاه و غَیَّضَ ه و اَغاضَ ه: کو بھڑکانا،
طیش دلانا، غضبناک کرنا، غصہ دلانا، اشتعال دلانا،
مشتعل کرنا، خفا کرنا، پریشان کرنا، برانگیختہ کرنا، برہم
کرنا، آگ بگولہ کرنا، دق کرنا، ستانا۔ تغیّظ و انغاظ
و اغتاظ من: پر غضبناک ہونا، برہم ہونا، سے غصہ
ہونا۔
غیف: غافَ ــِ غَیَفانات الشجرةُ: درخت کا اپنی
شاخوں کے ساتھ دائیں بائیں جھکنا صفت
غَیفاء۔ اغافَ الغصنَ: شاخ کو جھکانا۔ غیّف و
تغیّف ت الشجرةُ: درخت کا شاخوں کے ساتھ
دائیں بائیں جھکنا۔ الاَغیف م غَیفاء: نازک بدن،
کہا جاتا ہے عیش اغیف: آسودہ زندگی۔ شجرة
غیفاءُ: جھکی ہوئی شاخوں والا درخت۔ الغَیفان
والغَیَفان: متکبرانہ چال۔
غیّف: بھاگنا، بزدل ہونا۔ تغیّف عن الامر:
کام سے ہٹنا، باز رہنا۔
المغاف: غافة (ن) ایک پھل

درخت۔ الغَیَف: پرندوں کا جھنڈ۔ الغیّاف: بہت
لمبی داڑھی والا۔
غیق: غَیَّقَ المالَ: کو بگاڑنا، خراب کرنا۔ فی رایه
میں غیر مستقل مزاج ہونا۔ الطائرُ: پرندہ کا اپنی جگہ
پر پھڑپھڑانا۔ ـــ بصرَهُ: نگاہ کو پھیرنا۔ غیّقت
العینُ: آنکھ کا تاریک ہونا۔ غاقِ (مبنی علی
الکسر): کوے کی آواز کی حکایت: کائیں کائیں اگر
اسے نکرہ بنایا جائے تو غاقٍ کہا جائے گا۔ الغاق
(ح): کوا۔ عام لوگ القاق کہتے ہیں۔ الغاق و الغاقة
(ح): مرغابی۔
غیل: غالَ ــِ غَیلًا و اَغالَ اِغالةً ت المرأةُ
ولدَها: عورت کا حاملہ ہونے کی حالت میں بچہ کو دودھ
پلانا۔ صفت غائلة و مُغیل۔ اَغیَلَ اِغیالًا ت المرأة
ولدَها: عورت کا حاملہ ہونے کی حالت میں بچہ کو دودھ
پلانا۔ ت الغنمُ: بکری کا سال میں دو دفعہ بچہ دینا۔
الغیل (مص) م غَیلة ج اَغیال: حاملہ عورت کا
دودھ۔ الغِیلة: حمل کے وقت دودھ پلانا۔
غالَ ــِ غِیالًا و غیالةً و غُؤولًاه: کو چرانا۔ الغائلة
ج غوائل: شر، پوشیدہ کینہ۔ الغوائل: مصائب۔
مصیبت۔ الغِیلة: دھوکا، دھوکے سے مار ڈالنا کہا جاتا
قتله غِیلةً: کو دھوکہ دیکر کسی جگہ لیجا کر قتل کر
دیا۔ الغیّال: مبالغہ کا۔ المَغالة: شر، برائی۔
لغیَل اِغیالًا ت الشجرةُ: درخت کا بڑا اور گنجان
ہونا۔ تغیّل القومُ: قوم کے مویشیوں کا زیادہ ہونا۔
ـــ و استغیل ت الشجرةُ: درخت کا گنجان شاخوں
والا ہونا۔ صفت مغیال۔ اِغتالَ اغتیالًا الغلامُ: لڑکے
کا موٹا تازہ ہونا۔ الغیل م غَیلة ج اَغیال: موٹا
لڑکا۔ الغیل ج اَغیال و غُیول: بن۔ جنگل، بہت
گنجان شاخوں والا درخت، شیر کی جگہ۔ غَیّال: شیر
پر گوشت۔ المِغیال: گھنا سایہ دار درخت
الاَغیَل: المغائلة ج غَوائل: حوض کا شگاف۔ الغیل جمع
اَغیال: زمین پر بہنے والا پانی، بہتے پانی کے چشموں کی
وادی۔ دور کی چیز جو نزدیک نظر آئے۔ الغیل ج اغیال
و غُیُول: پانی والی وادی۔
غیم: غامَ ــِ غَیمًا و غَیَّمَ و اَغامَ اغامةً و اَغیَمَ
اِغیامًا و تغیّم ت السماءُ: آسمان کا ابر آلود ہونا۔
الغیم (مص) ج غُیوم و غِیام: بادل
غَیُوم: ابر آلود دن۔
غامَ ـــِ غَیمًا البعیرُ: اونٹ کا پیاسا ہونا صفت
غیمان م مونث غَیمَی۔ غَیِمَ البعیرُ: اونٹ کا
پیاسا ہونا۔ صفت غَیوم۔ اَغیَمَ اِغیامًا البعیرُ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اونٹ کا پیاسا ہونا۔ القومُ: لوگوں کا پیاسا ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ اَغْيَموا فی المكان: وہ اس جگہ ٹھہرے۔ الغُيَم پیاس اونٹوں کی ایک بیماری جو پیاس سے لگتی ہے۔

۞ غَامَ ـِ غَيْمًا (آسمان کا) ابرآلود ہونا، بادلوں سے گھرا ہوا ہونا، بادلوں سے بھر جانا، پر بادل چھا جانا، کہر اور سخت دھند سے ڈھپا ہونا، دھندلا جانا۔ غَيَّم: آسمان کا ابرآلود ہونا، بادل بنانا، (سانپ کا) لہرانا، بہتے چلے جانا۔ اَغَام و اَغْيَمَ: آسمان کا ابرآلود ہونا۔ غيم واحد غيمة جمع غيوم و غيام بادل، کہر، دھند، غائم: ابرآلود، بادلوں سے بھرا ہوا، چھائے ہوئے بادلوں والا۔ مُتَغَيِّم: بادلوں سے بھرا ہوا، ابرآلود، چھائے ہوئے بادلوں والا۔

عیں ا۔ غانَ ـِ غَيْنًا: پیاسا ہونا۔

۲۔ عانَ ـِ غَيْنَات نفسُهُ: جی متلانا۔ ــ ت السماءُ: آسمان پر بادل چھا جانا۔ غِيْنَ ت السماء: آسمان پر بادل چھا جانا۔ ــعلى قلبه: پر خواہشات کا غالب آنا۔ اَغانَ السحابُ السماءَ: بادلوں کا آسمان پر چھا جانا۔ اُغِينَ على قلبه: پر خواہشات کا غالب آنا۔ الغَيْن: بادل۔ الغَيْنَة: پانی کے بغیر گھنے درخت۔ الـغِيْنَة: جنگل۔ بن، درختوں کا جھنڈ۔ الاَغْيَن م غَيْنَاء جمع غِين من الشجر و النبات: سبز اور لمبا درخت اور پودا۔

۳۔ غَيَّن غَيْنًا: حرف غین لکھنا۔ الغين: حروف تہجی کا ایک حرف (غ)

۴۔ الغِينَة: پیپ۔ مردار سے بہنے والا مادہ غيه: الغَيْهَم: تاریکی

۞ غَيْنَة: رخسار پر کا تل۔ خنزير غيني: (گنی کا سور) امریکی چوہا۔

غينيا۔: گنی Guine غِيْنِيا الجديده: نیوگنی (ملک)۔

غيی: ا۔ غَيَّا تَغْيِيَةً و اَغْيَا اِغياءً الغَايَة اى الراية: جھنڈا گاڑنا۔ ــ للقوم: لوگوں کے لئے جھنڈا گاڑنا۔ الغَايَة جمع غَايَات و غايٌ اور نسبت کیلئے کہیں گے غَائِي: جھنڈا۔

۲۔ غَيَّا تَغْيِيَةً الطيرُ على الشئ: پر پرندہ کا پھڑ پھڑانا۔ غَايَا مُغَايَاةً القومُ فوق رأسه بالسيوف: کے سر پر تلواروں کا بلند کرنا جیسے وہ اس پر سایہ کر رہے ہوں۔ اَغْيَا اِغْيَاءً الطيرُ: پرندے کا پھڑ پھڑانا۔ ـــــ السحابُ: بادل کا ایک جگہ ٹھہر جانا۔ تَغَايَات الطيرُ على الشئ: پر پرندوں کا منڈلانا۔ کہا جاتا ہے۔ تَغَايِوا عليه حتى قَتلوه: انہوں نے مل جل کر اسے قتل کر دیا۔ الـغَايَة: پھر پھڑانے والا پرندہ۔ الـغَيَايَة جمع غَيَايات: بادل، گرد و غبار کی طرح ہر چیز جو سایہ کرے۔

۳۔ اَغْيَا اغياءً الرجُلُ: شرافت اور معاملہ میں انتہا تک پہنچنا۔ ــ الفرسُ فی سباقه: گھوڑے کا دوڑ میں حد مقررہ (منزل) تک پہنچنا۔ الـغايَة جمع غَايَات وغايٌ نسبت غائي: انتہا، مدت، مقصود فائدہ، کہا جاتا ہے۔ غايتُك ان تَفْعَلَ كذا: تمہاری انتہائی طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ انت بعيدُ الغاية: تمہاری رائے درست ہے۔ الغَيَايَة جمع غَيَايات: کنویں کی گہرائی۔ المُغَيَّا: وہ جگہ جہاں گھڑ دوڑ کے لئے جھنڈا نصب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ الغاية لا تدخل فی المُغَيَّا: یعنی جھنڈا اس جگہ نہیں گاڑا جاتا جہاں اس کو گاڑنے کا ارادہ ہو۔ مقصود مفاد تک پہنچنے کی مشکل سے کنایہ ہے۔

۴۔ الـغايَة: چڑیوں کو شکار کرنے کی نے۔ الـغَيَايَة جمع غيايات: سورج کی شعاع کی روشنی الغَيَّة: مادہ غوی دیکھیں۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ف

ف تلفظ فا۔ حروف تہجی کا بیسواں اور حروف ابجد میں اسی (۸۰) کے برابر ہے۔

بطور حرف عطف مندرجہ ذیل معانی میں مستعمل ہے۔

۱۔ ترتیب: جیسے: قام زید فعمر: زید کھڑا ہوا پھر عمر۔

۲۔ تعقیب: جیسے: حبسهُ فقَتَلَه: اس کو قید کیا بعد میں قتل کر دیا۔ (قید کر کے قتل کر دیا)۔

۳۔ سببیت: ضَرَبَهُ فمات: اس کو مارا تو وہ مر گیا۔

۴۔ حرف رابطه: جواب کو شرط سے مربوط کرنے کے لئے جیسے: ان کنتم تحبوننی فاحفظوا وصایایَ: اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری یہ وصیتیں ذہن میں رکھنا۔

۵۔ شبہ جواب کو شبہ شرط کے ساتھ مربوط کرنے کے لئے جیسے: الذی یأتینی فلهُ درهمٌ: میرے پاس آنے والے کے لئے ایک درہم ہے۔

۶۔ حرف ناصبہ جو حرف مضارع پر بتقدیر ان داخل ہو جیسے: زُرْنِی فاکرمَكَ: میرے پاس آؤ گے تو تمہاری عزت کروں گا۔ یہ سببیہ کہلاتا ہے۔

۷۔ استئناف: یہ پہلے معنی کے ساتھ تعلق توڑ کر دوسرے سے ابتداء کرنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے: یقول لَهُ کُنْ فیکونُ: وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یکون رفع کے ساتھ آتا ہے۔ اس وقت معنی ہوتا ہے فهو یکون۔

۸۔ زائدہ: جیسے: زیدٌ فلاتضرِبْهُ: (زید کو نہ مار)۔ (۲) خرجت فاذا الاسد فی الدار: میں نکلا شیر گھر میں تھا۔ (۳) لماقمتَ فقُمنا: جب تو کھڑا ہوا ہم بھی کھڑے ہو گئے۔

○ ف: فدان (مربع کا پیمانہ) کا مخفف، ف: تب، اور تب، اور ایسے، اسی طرح، یوں، اس حد تک، اتنا، اس لئے، لہٰذا، لیکن تب، تاہم، لیکن مگر اس وقت؛ چونکہ، اس لئے کہ (انشائیہ کیساتھ) تا کہ۔ یوماً فیوماً: دن بدن، روز بروز، روزانہ۔ شیئاً فشیئاً: دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، بتدریج، رفتہ رفتہ۔ امر فقتلوه: اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ فَإنَّ: چونکہ اس لئے کہ۔ فاء: حرف فا کا نام۔ فَابِرِیْقَة اور فابَرِیکَة: فیکٹری، کارخانہ، پلانٹ۔

فات: اِفتَاتَ برأیه: رائے میں منفرد ہونا۔ — علیَّ الباطِلَ: کے میرے خلاف باطل گھڑ لینا۔ اُفتِیتَ: اچانک مرجانا۔

○ اِفتات علی: کے بارے میں جھوٹ بولنا، کے خلاف سخت اقدام کرنا؛ (فرض وغیرہ) کی خلاف ورزی کرنا۔ افتأتَ برأیه: اپنی رائے پر عمل کرنا۔ اِفتِئات: ظلم، استبداد، تشدد۔

فَاتُورَة جمع فواتیر: بل، بیجک (bill, invoice)۔ الفَاتِیکان: ویٹیکن۔ (the Vatican) (روم کے پاپا کی بارگاہ جو ویٹیکن پہاڑی پر ہے)، پاپائی حکومت

فاد: ۱۔ فَادَ - فَادًا هُ: کے دل پر مارنا، دل پر لگنا۔ الخوفُ فلاناً: خوف کا کسی کو بزدل بنا دینا۔ فُئِدَ فأدًا و فَئِدَ - فأدًا: دل کی بیماری والا ہونا۔ الفُؤاد جمع أفئِدَة: دل، بسا اوقات عقل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الفَئِید: بزدل جس میں دلاوری کا نام تک نہ ہو۔ المَفؤود: دل کی بیماری والا، دلیری سے خالی، بزدل۔

۲۔ فَادَ - فَادًا الخبزَ: روٹی کو بھوبھل میں رکھنا۔ — اللحمَ فی النار: گوشت کو آگ پر بھوننا۔ تفادت النارُ: آگ کا جلنا۔ اِفتَادَ الرجُل: بھوننے کے لئے آگ جلانا۔ — اللحم فی النار: گوشت کو آگ پر بھوننا۔ الفَئِیدُ: آگ، بھنا ہوا۔ الأفؤود جمع افَائِید: بھوبھل میں رکھی ہوئی روٹی، بھوبھل میں روٹی رکھنے کی جگہ۔ المِفأد و المِفآد و المِفادة جمع مَفَائِد و مَفَائِید: آگ کریدنے کی لکڑی یا لوہے کی سلاخ، سیخ۔ المُفتَأد: آگ جلنے کی جگہ۔ المَفؤود: بھوبھل میں رکھی ہوئی روٹی، بھنا ہوا (گوشت)

○ فُؤادِیَة: فؤاد کیپ (جیسے جناح کیپ)، مصری ہوائی فوج کی موسم گرما کی میدان جنگ کی ٹوپی۔

فأر: فَأرَ - فَأرًا الترابَ: مٹی کھودنا۔ — الشیءَ: کو دفن کرنا، چھپانا۔ فَئِرَ - فَأَرًا المکانُ: جگہ کا چوہے والا یا بہت چوہوں والا ہونا۔ الفَأر (مص) جمع فِئران و فِئرة: (مذکر و مونث کیلئے) (ح): چوہا۔ مکانٌ فَئِرٌ و ارضٌ فَئِرَةٌ و مَفارة: جگہ اور زمین جہاں بہت چوہے ہوں۔ الفارَة (ح): فأر کا واحد، مشک کا نافہ۔

○ فَأرَة و فَارة جمع فارات: رندہ (Plane)۔ چوہا۔

فأس: فأسَ - فَأسًا الخشبةَ: لکڑی کو کلہاڑی سے پھاڑنا۔ — الرجُلَ: کو کلہاڑی مارنا، سر کے پچھلے حصہ پر لگنا۔ الفأس (مص) جمع أفؤس و فؤوس: کلہاڑی۔ فاس بھی کہا جاتا ہے یہ لفظ مؤنث ہے۔ فأسُ الرأس: سر کے پچھلے حصہ کی ابھری ہوئی ہڈی۔ فأسُ الفم: منہ کا وہ کنارا جہاں دانت ہوتے ہیں۔ فاسُ اللجام: لگام کا وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے۔

○ فَارِس و بلاد فارِس: فارس (Persia)۔ فارسی: Persian۔ فارُوز: فیروزہ (turquoise)۔ فازلین: ویسلین (vaseline)۔ فَاس (مونث) جمع فُؤوس و

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فاس: تیشہ، تبر، کلہاڑی، پھاوڑا، کدال، بیلچہ، کھرپا۔
فـاس: مراکش کا ایک شہر (Fez یا Fes)
فـاشِـسْـتِیَّـة: فسطائی fascist, fascistic
فـاشِـسْـتِی: فسطائی۔
فاشیة: فسطائیت (fascism) فاصولیا: باقلا، لوبیا، پھلی۔
فـأف: فأفأ فأفأةً الرَّجُلُ: حرف فاء کو کثرت سے بولنا
فأفاء اور فأفأ۔
فـأفـأ صفت: ہکلانا، تتلانا، لکنت کرنا، رک رک کر بولنا، اٹک
فأق: فَأَقَ ـ فُؤَاقاً: باتیں کرتے میں رُکنا۔ الفُؤَاق و الفُوَاق: ہچکی آنا۔
فاکون جمع فواکین: معدہ سے نکلنے والی ہوا، ہچکی۔
ریل کار، کوچ (railroad car, coach)
فأل: فـأل تفیلاً ہ بالشیءِ: کو سے اچھی فال دلانا۔
تفأّل و تفاءل و اِئْتَال بہ: سے اچھی فال لینا۔
الفـأل جمع فؤول و أفؤل: نیک شگون۔ جیسے
مریض کسی کو یا سالم کہتے سنے تو اپنا لے سمجھے کہ وہ صحت یاب ہوجائے گا۔ کہا جاتا ہے: لا فأل علیک: اللہ کرے تجھے کوئی بد بختی پیش نہ آئے۔
الفِیال: بچوں کا ایک کھیل، (جس میں کسی چیز کو مٹی میں دبا کر اُس کے دو ڈھیر بنا کر سوال کرنا کہ چیز کس ڈھیر میں ہے)
تفاءل معہ: یہ کھیل کھیلنے والا۔
فـأل جمع فؤول و أفؤل: کو اچھا شگون سمجھنا، کو مبارک آغاز سمجھنا۔ نیک شگون، پسندیدہ
فأل، رجائیت پسندانہ نظریہ، امید، اچھا شگون، فال
نیک، فالی، شگون۔ تفاؤل: قسمت کا حال بتانا۔ متفائل: رجائیت، پُرامیدی۔
فأم: فأماً من التفاؤل: رجائیت پسند، رجائیت پسندانہ، پُر امید۔
ـــ البعیرُ: پانی سے سیراب ہونا۔ فئم
فأما و تفأّم البعیر: اونٹ کا گھاس سے منہ بھرنا۔
اَفْأَمَ الدَّلْوَ: اونٹ کا گھاس سے منہ بھرنا۔
فأّم و أفأم القتب: ڈول بھرنا۔ پالان کو وسیع کرنا۔
الفِـئـام جمع فُؤُم: لوگوں کی جماعت (عصر اس لفظ سے اسکا واحد نہیں آتا) کہا جاتا ہے: قطعوہ فؤوما: انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
فـالـس: والز: ایک رقص جس میں جوڑے جوڑے
فـالـسو کج: فالوذجی ناچتے ہیں۔ waltz
فالوذج: فالودہ۔ فالِنة و فالِلا جمع
فـالولات: فالودہ جیسا، ملائم۔
فلالین: فلالین (flannel) فلالین کی نیچے پہننے کی قمیص under shirt
زیر جامہ (under wear, under clothing)۔

فانوس جمع فوانیس: لالٹین۔ فانوس سحری: جادو کی لالٹین، (سلائڈ) پروجیکٹر، آلہ تظلیل۔
فأو: فأی ـ فأواً و فأیاً رأسَ فلان: ا۔ کے سر کو تلوار سے پھاڑنا۔
القدح: سے پھاڑنا۔ افأی: تنگ وادی میں جا پڑنا۔
انفأی: پیالہ کا پھٹنا۔
الشیءُ: چیز کا پھٹنا، کھلنا۔ ـــ بین الشیئین: کھلنا
الفـأو (مص): دو چیز کے درمیان درز، شگاف ہونا۔
دو پہاڑوں کے درمیان شگاف، وادی میں تنگ جگہ جو کھلی جگہ کو لے جائے، ریت کا تودہ، راتہ پہاڑوں کے درمیان عمدہ زمین۔ الفِئة جمع فِئات و فِئون:
الفأو: جماعت، گروہ۔
فِئة جمع فِئات: چکنی جگہ، آفتاب غروب ہونے کی جگہ۔
گروہ، ٹولہ، جماعت، طبقہ، فوج، دستہ یا رسالہ، منڈلی، جتھا، پارٹی، پلٹن (platoon) (ہلکے اسلحہ کی)، شرح ٹیکس (تشخیص محاصل کی)، ٹیکس، فیس، قیمت۔ فاوریقة جمع فواریق: کارخانے
فبرایر: فروری (February)
فبارك (جمع): کا پلانٹ، کارخانے۔
فت: فتّ ـ فتّاً و فتّتَ الشیءَ: ا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: فتّ فی ساعدہ: کو انگلیوں سے ریزہ ریزہ کرنا۔ فتّ فی عضدہ: اس نے اس کو کمزور کردیا۔ اس نے اس کی قوت توڑ دی اور اس کے اعوان و اعضاء کو منتشر کر دیا۔
تفتّت و انفتّ الشیءُ: ٹوٹ جانا۔
الفتّ (مص): تھوڑی پھٹن۔ کہا جاتا ہے: اهل بیت فَتٌّ و فِتٌّ و فُتٌّ: وہ منتشر لوگ ہیں۔
الفَتّة و الفِتّة: خشک ٹہنیاں جو توڑی جائیں اور چقماق کے نیچے رکھ کر آگ روشن کی جائے۔ (کہا جاتا ہے: هذا لا یساوی فتّة: یہ تو تنکے برابر بھی نہیں)، کھجوروں کا ڈھیر۔
الفُتات و الفتیت: چورا کیا ہوا۔ الفتیتة جمع فتائت: چورا کیا ہوا، ریزہ شدہ چیز کا ٹکڑا۔
المفتوت: چورا کیا ہوا۔
فتفت فتفتةً الیہ: ۲۔ سے چپکے چپکے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے: ماهذه الفتفتة و الدندنة: یہ کیا سرگوشی اور زیر لب بات چیت ہے؟۔
الفتافت: پوشیدہ باتیں، کانا پھوسیاں، کھسر پھسر، سرگوشیاں،
فتّ: فتّ فی: کو کمزور کرنا، نیچے سے کاٹنا، کی اندر فتّ فی ساعدہ یا فتّ فی عضدہ: اندر جڑیں کھوکھلی کرنا، کو ختم کرنا، کو کمزور کرنا، کی طاقت ختم کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا، کی ہمت توڑنا، کو بددل کرنا۔
فتّت ۵: کو ریزہ ریزہ کرنا، کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کو ضائع کرنا، اجاڑنا، کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔
مُفتِّت القلب (آلہ کباد): دل شکن، دل ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا۔
تفتّت: ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ختم ہونا، منتشر ہونا۔ انفتّ: بمعنی تفتّت۔
فتّة: ایک قسم کا روٹی کا آش یا اس کی یخنی۔
فُتات: روٹی کے ٹکڑے، بھورے، لقمے، نوالے۔
فَتیت: روٹی کے ٹکڑے، بھورے، چوری۔
فتیتة: روٹی کی یخنی کی ایک قسم۔
فتا: فتأ ـ فتأ النار: آگ بجھانا۔ ـــ ہ عن الامر: کو کسی کام سے روک دینا۔
فتیءَ ـ فتاءہ: ... مافتأ ـ و ما فتیءَ: رکنا، کو بھول جانا۔ کہا جاتا ہے: ـــ یفعل ذلک: وہ یہ کررہا ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور سوائے ماضی اور مضارع کے دوسرے افعال کا اس سے استعمال نہیں ہوتا۔
فتیءَ ـ و فتیءَ ـ ہ: (ما نافیہ کے ساتھ): کچھ ہوتا رہنا۔
فتیءَ ـ فتأ عن: سے رکنا، باز رہنا، کو کرنے سے رکنا۔
مافتیءَ یفعل: کو کرتے رہنا، کو مسلسل کرنا، لگاتار کرنا۔
فتح: فتح ـ فتحاً الباب: ا۔ دروازہ کھولنا۔
القناة: (پانی جاری رکھنے کے لئے) نالی نکالنا۔
اللہ علیه: اللہ تعالیٰ کا کسی کو سکھلا دینا، معرفت بخشنا۔ ـــ سِرّہ علی فلان: کسی پر اپنا بھید ظاہر کرنا۔
فتّح: بمعنی فتح: تشدید کے ساتھ مبالغہ کے لئے آتا ہے۔
فاتح البیع: بیع میں آسانی کرنا۔ تفتّح: کھل جانا۔
ـــت الاکمة عن النور: کلی کا کھلنا۔ انفتح: کھل جانا۔
افتتح و ـــ عن الشیءِ: کھل جانا۔
اِستفتح الابواب: دروازے کھول دینا۔
الفتح: ایک قسم کی حرکت جس سے منہ کھل جاتا ہے۔ جمع فتوح: اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ روزی، دریاؤں کا جاری پانی۔
الفتحة: فتح کا اسم مرۃ: ایک مرتبہ کھولنا، زبر کی علامت۔
الفُتُح: کھلا ہوا وسیع دروازہ، کھلی ہوئی بڑی شیشی۔ الفتحة جمع فُتَح: کشادگی۔
الفتّاح: صیغہ مبالغہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لئے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔
المِفتح جمع مَفاتح: چابی، کنجی، پانی کی نالی، دفینہ، خزانہ، کنز۔
المفتاح جمع مفاتیح: چابی، کنجی۔
فتح ـ فتحاً الحاکم بین الناس: لوگوں کے درمیان حاکم کا فیصلہ کرنا۔
فاتحہٗ: کو فیصلہ کے لئے لے جانا۔
یوم الفتح: یوم قیامت
الفِتاح و الفُتوحة: الفتاح و الفتاحة و حکومت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الفُتَاحَة: دو دشمنوں کے درمیان فیصلہ۔ کہا جاتا ہے:
بینهما فُتَاحات: ان دونوں کے درمیان دشمنیاں
ہیں۔ الفَتَّاح: حاکم، قاضی۔
فَتَحَ ۔ فَتْحاً البلادَ: ملک پر غلبہ حاصل کرنا، ملک
کا زبردستی مالک ہو جانا، ملک کو فتح کرنا۔ فَتْحاً و
فَتَاحَةً اللّٰهُ علی فلان: کی مدد کرنا۔ اِفْتَتَحَ البلادَ:
ملک کو فتح کرنا۔ اِسْتَفْتَحَ الرجُلُ: مدد طلب کرنا۔
الفَاتِح جمع فَتَحَة و فاتحون (فا): فتح کرنے
والا، کھولنے والا۔ الفَتْح (مص) جمع فُتُوح: مدد۔
الفُتُوحَات: جنگ سے فتح کئے جانے والے ممالک۔
الفَتَاحَة (مص): مدد۔
فَاتَحَ ہٗ بالامر: کے بارے میں سے پہلے مخاطب
ہونا۔ ۔ فُلاناً: سے بھاؤ کرنا مگر اسے کچھ نہ دینا۔
اَفْتَتَحَ و اِسْتَفْتَحَ الامرَ بکذا: کو سے شروع
کرنا۔ الفَاتِحَة من الشیء جمع فَوَاتِح: چیز کا
آغاز اور اس کی ابتداء اسی سے فَاتِحَةُ الکتاب:
کتاب کا آغاز، کتاب کی ابتداء، کتاب کا شروع۔
الفَتْح جمع فُتُوح و الفَتُوح جمع فُتُح: موسم
بہار کی پہلی بارش۔ الاِسْتِفْتَاح (مص): حرف استفتاح
نحویوں کے نزدیک اَلا ہے۔ اَلا کلُّ شیءٍ ماخلا
اللّٰہ باطل: بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل
ہے۔ الاِفْتِتَاحِیَة: اخبار کا اداریہ۔
تَفَتَّحَ فی الکلام و بالمال علی فلان: اپنی
گفتگو اور مال کا کسی سے اظہار کرنا اور اس پر فخر کرنا۔
تَفَاتَحَ القومُ کلاماً بینهم: آپس میں چپکے چپکے
باتیں کرنا۔ الفُتْحَة جمع فُتَح: اپنے علم و ادب یا
مال کا اظہار اور اس پر فخر۔
فَتَحَ ۔ فَتْحاً ہ: کو کھولنا؛ (ٹونٹی) کھولنا، بٹن دبا کر
روشنی کرنا، بٹن دبا کر (مشین وغیرہ) رواں کرنا،
(نہر) کھودنا، (سڑک) تعمیر کرنا: کو کھولنا، (تقریر
وغیرہ) شروع کرنا، سے تعارف کرانا، آشنا کرانا، کو فتح
کرنا، سر کرنا۔ علی ہ: پر کا انکشاف کرنا، کو کچھ
دکھانا، پر کچھ ظاہر کرنا، کو پر افشا کرنا، کو پر فتح عطا کرنا
(اللہ کا)، (اللہ کا) کسی کے اقتدار میں کسی چیز کو دینا۔
۔ علی: پر نفع کے دروازے کھولنا (خدا کا)۔
۔ علی ہ/ب: (اللہ کا) کسی کے دل پر کچھ ڈالنا، پر کا
القاء کرنا، الہام کرنا، کو کچھ عطا کرنا۔ فُتِحَ البخت: فتح
قسمت۔ فَتَحَ عینیه علی آخرهما: اپنی آنکھیں
پوری کھولنا، کھلی آنکھوں سے تکنا، گھورنا۔ فَتَحَ الشهیةَ:
بھوک، اشتہاء پیدا کرنا، تیز کرنا۔ تَفَتَّحَ ہ: کو کھولنا،
پھول کی کلی کا کھلنا۔ فَاتَحَ ہٗ: سے پہلے خطاب کرنا،
سے پہلے بات کرنا۔ ۔ ہ فی: سے کے بارے میں
گفتگو شروع کرنا۔ ۔ ہ ب/ ہ: پر کوئی بات ظاہر
کرنا، پر کا انکشاف کرنا۔ تَفَتَّحَ: کھلنا۔ ۔ عن:
کھلنا تا کہ کوئی چیز قابل فہم ہو جائے۔ تَفَتَّحَ: دل کا
اثر پذیر ہونا۔ اِنْفَتَحَ: کھلنا، کھولا جانا۔ اِفْتَتَحَ ہ:
کا افتتاح کرنا، کا تقریب سے آغاز کرنا، کو کھولنا۔
۔ ہ ب: کو سے شروع کرنا، کو سے رواج دینا، کو تمہید
سے شروع کرنا۔ ہ: کو فتح کرنا، سر کرنا۔ اِسْتَفْتَحَ
ہ: کو شروع کرنا، کا آغاز کرنا۔ علی: کے خلاف
اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، پر فتح کی اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا
کر دعا کرنا۔ فَتْح: کھولنا، آغاز، ابتداء، مقدمہ،
تمہید، تعارف، شناسائی۔ فَتْحُ الاعتمادِ: بنک
میں حساب کھولنا، ہنڈی پیش کرنا۔ فُتُوح و فُتُوحات:
فتوحات: خیرات، عطیات، چندے، کسی ولی
کے مقبرے کے ساتھ بنی ہوئی مسجد کے لئے جہاں
تعلیم اور علاج کی سہولتیں فراہم کی گئی ہوں۔ فُتْحَة
جمع فُتَح و فُتَحَات: شگاف، سوراخ، راستہ،
درز، موقع، موکھا، روشن دان، روزن، خندق، کھائی،
پانی کے بند کا دروازہ جس کو کھول کر پانی چھوڑا
جاتا ہے۔ فَتَّاح (روزی اور نفع کے دروازے)
کھولنے والا (باری تعالیٰ کی ایک صفت)۔ فَتَّاحَة
جمع فَتَّاحَات: ڈبہ وغیرہ کھولنے کا اوزار۔ مِفْتَاح
جمع مَفَاتِیح: چابی، کنجی، سوچ، لیور (lever)،
پیڈل (سائیکل گاڑی وغیرہ کا)، لٹو، (ریڈیو کھولنے اور
بند کرنے کا)، (شہنائی وغیرہ کا) والو volve، کھونٹی،
کیل، میخ، پن، (ریلوے کا) کانٹے
والا۔ اِفْتِتَاحِی: گفتگو کا آغاز۔ مُفَاتَحَة
مَبْلَغ اِفْتِتَاحِی: شروع کی بولی، سب سے کم بولی۔ فصل (مقال)
افتتاحی، المقالة افتتاحیة: اداریہ، ایڈیٹوریل،
اہم مضمون۔ فَاتِح: کھولنے والا، شروع کرنے
والا، فاتح، ہلکا (رنگ)۔ فاتح البخت: نجومی،
جوتشی۔ ازرق فاتح: ہلکا نیلا۔ مَفْتُوح: کھلا،
کھلا ہوا۔ الباب مفتوح علی مصراعیه: دروازہ
کے دونوں پٹ کھلے ہوئے ہیں۔ مُفَتِّح: اشتہاء
انگیز بھوک بڑھانے والا۔ مُفْتَتَح: آغاز، شروع،
ابتداء، افتتاح۔
فَتَخَ ۔ فَتْخاً و فَتَّخَ اصابعَهٗ: انگلیوں کو مروڑنا،
نرم کرنا۔ فَتِخَ ۔ فَتَخاً: ڈھیلے، نرم اور کمزور جوڑوں
والا ہونا۔ صفت اَفْتَخ۔ اَفْتَخَ الرجُلُ: کا تھکنا،
سانس پھولنا۔ فَتَخ: انگلیوں میں چھلا۔ ...
جوڑوں کا ڈھیلا اور نرم ہونا۔ الفَتْخَة و الفَتَخَة
جمع فَتَخ و فَتَخَات و فُتُوخ و فِتَاخ: چھلا،
بغیر نگینہ کی انگوٹھی۔ (نگینہ والی انگوٹھی کو خاتم کہتے
ہیں۔) الاَفْتَخ مونث فَتْخَاء جمع فُتْخ: نرم
کمزور اور ڈھیلے جوڑوں والا۔ رَجُلٌ اَفْتَخُ الطَرْف:
کمزور نگاہ والا مرد۔ الفَتْخَاء: نرم بازوؤں والا عقاب
الفَتَخ و الفَتَخَة: بالائی بازو اور بازو کا اندرونی حصہ۔
فُتُوخ الأسد: (واحد فَتْخ) شیر کے پنجے۔ اَسَدٌ اَفْتَخ
مونث فَتْخَاء جمع فُتْخ: چوڑے کندھے والا شیر۔
فَتَرَ ۔ فُتُوراً و فُتَاراً: تیزی کے بعد ساکن ہونا۔
سختی کے بعد نرم پڑنا۔ ۔ الماءُ: پانی کی حرارت کم
ہونا۔ ۔ فَتْرَةً و فُتُوراً الحرُّ: گرمی کا کم ہونا۔
فَتَّرَ: تیزی کے بعد ساکن ہونا، سختی کے بعد نرم پڑنا۔
السحابُ: بادل کا ٹھہرنا، آمادہ بارش ہونا۔ ۔
الماءَ: گرم پانی کی حرارت کو کم کرنا۔ تَفَتَّرَ: تیزی
کے بعد ساکن ہونا، سختی کے بعد نرم پڑنا۔ ۔ الماءُ:
پانی کی حرارت کم ہونا۔ الفَتْرَةُ جمع فَتَرَات: صلح،
بخار کی دو باریوں کے درمیان کا زمانہ۔ ماءٌ فاتور:
نیم گرم پانی۔
فَتِرَ ۔ فُتُوراً و فُتَاراً عن العمل: کام میں کوتاہی
کرنا۔ ۔ فَتْراً و فُتُوراً جسمُهٗ: کے جسم کے
جوڑوں کا نرم اور کمزور ہو جانا۔ فَتَّرَ ہ: کو سکون اور نرمی
پر آمادہ کرنا۔ اَفْتَرَ: کمزور پلکوں والا ہونا۔ ۔ ہ الداءُ
او السکرُ: کو بیماری یا نشہ کا کمزور کر دینا۔
الشرابُ: پینے والے کو شراب کا مست کر دینا۔ تَفَتَّرَ
عن العمل: کام میں کوتاہی کرنا۔ اِسْتَفْتَرَ الفرسُ:
گھوڑے کی سواری نہ کئے جانے پر اور کھلا چھوڑنے پر
تھکن جاتی رہنا۔ الفُتُورُ: کمزوری، پژمردگی۔ الفَتْرَة
الفَتَر: سستی، کمزوری۔ الفَتْرَة و الفِتْر
جمع فَتَرَات: ایک قسم کی مچھلی جس کو پکڑنے سے کپکپی پیدا ہو
(ح): جاتی ہے۔ اسے رعادہ بھی کہتے ہیں۔ الفِتَار: ابتدائی
نشہ۔
فَتَرَ ۔ فَتْراً ہٗ: کو فتر سے ناپنا۔ الفِتْر: انگشت
شہادت اور انگوٹھے کے سروں کے درمیان کا کھلی ہوئی
حالت میں فاصلہ۔
الفَتْر: کھجور کی چٹائی جس پر آٹا چھانا جاتا ہے۔ الفَاتُورَة
جمع فَوَاتِیر (ت): فہرست جو سامان کے ساتھ بھیجی
جاتی ہے اور جس میں سامان کی اقسام، ان کی مقدار،
قیمت اور اخراجات کی تفصیل درج ہوتی ہے، بیجک
(invoice)۔
فَتَرَصَ ۔ فَتْرَصَةً ہٗ: کو کاٹنا۔
فَتَرَ ۔ فُتُوراً: کم ہونا، مدھم پڑنا، اتر جانا، دب جانا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فرو ہونا، اونگھنا، کمزور ہو جانا، مضمحل ہونا، ڈھیلا ہونا یا پڑنا، (پانی کا) ٹھنڈا ہونا، نیم گرم ہونا۔ — عن: میں ڈھیلا ہو جانا، نافرض شناس ہونا، دلچسپی نہ رکھنا، کوتاہی کرنا۔ فَتَّرَ ہ: کو فرو کرنا، گھٹانا، کا زور کم کرنا، کی شدت کو گھٹانا، کو ہلکا کرنا، کا درد دور کرنا، کو آرام دینا، کو نرم کرنا — ہ/ ہ: کو کمزور کرنا، کو بے ہمت یا مردہ دل کرنا، کو غافل کرنا، نڈھال کرنا، ڈھیلا کرنا۔ — ہ: (پانی) کو نیم گرم یا شیر گرم بنانا۔ اَفْتَرَ ہ/ ہ: کو کمزور کرنا، بے ہمت کرنا، غافل کرنا، نڈھال کرنا۔ تَفَتَّرَ: (پانی کا) نیم گرم ہونا، اونگھنا، کمزور ہونا، مضمحل ہونا، ڈھیلا ہونا یا پڑنا۔ فِتْر جمع اَفْتَار: چھوٹی بالشت، کونہ۔ فَتْرة: سستی، الکسی، ضعف، کمزوری، تھکان، بے کیفی، ڈھیلا پن یا اضمحلال، ناتوانی، ناطاقتی، نقاہت، پژمردگی، نیم گرمی، شیر گرماہٹ، بے اعتنائی، بے توجہی، عدم دلچسپی، غیر جانبداری، سرد مہری (احساس و جذبات کی) جمع خالی وقت وقفہ، توقف، عرصہ، تھوڑی سی دیر، مدت وقت۔ فترة الانتقال: عبوری عرصہ۔ بین فترة و اخری: کبھی کبھی، وقتاً فوقتاً۔ فی الفترة بعد الفترة: کچھ کچھ وقفوں کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ فُتُور: سستی، الکسی، ماندگی، کمزوری، ناتوانی، تھکاوٹ، تکان، ڈھیلا پن، بے پروائی، نیم گرماہٹ، شیر گرماہٹ۔ فاتر: نڈھال، سست رفتار، پژمردہ، کمزور، بے ہمت، ڈھیلا، ڈھیلا ڈھالا، نرم، پھیکا، ہلکا، ماند، سرد، پھیکا مندا (بازار حصص: stock exchange) نیم گرم، شیر گرم۔ مُتَفَتِّر: وقفہ والا۔

فتش: ١۔ فَتَشَ ـفَتْشاً و فَتَّشَ الشیءَ: کا معائنہ کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا، کو جانچنا، کا امتحان کرنا، کی تلاشی لینا۔ — عنه: کے بارے میں دریافت کرنا اور کی تفتیش کرنا۔ الفَتَّاش: صیغہ مبالغہ، بہت جستجو کرنے والا، بہت تلاش کرنے والا۔ المُفَتِّش جمع مُفَتِّشون: انسپکٹر، معائنہ کار۔

٢۔ الفتوش (ط): ایک قسم کا کھانا جو روٹی کے ٹکڑوں، پیاز، اجوائن اور کھیرے وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔

٣۔ الفِتَیش عند العامة: آتشی تیر (rocket)۔

○ فَتَّشَ ہ: کا پورا جائزہ لینا، کی جانچ پڑتال کرنا، کو ڈھونڈنا، (کی) تلاش کرنا، کی تفتیش کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا۔ — عن: کو پوچھنا، کا حال پوچھنا، کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ — ہ/ ہ/علی: کی نگرانی کرنا، کا انتظام کرنا، کو قابو میں رکھنا، پر تسلط قائم رکھنا، کا معائنہ کرنا۔ — علی: کا نگران ہونا، کی نگرانی کرنا، کو قابو میں رکھنا، کا معائنہ کرنا۔ فَتَّاش: مکمل امتحان یا جائزہ لینے والا، تحقیقات کرنے والا محقق، چھان بین کرنے والا۔ تَفْتیش جمع تَفَاتیش: امتحان، بغور مشاہدہ، جائزہ، چھان بین، جانچ پڑتال، تلاشی، تلاش، تحقیقات، پوچھنا، دریافت کرنا، گہرا مطالعہ، غور و خوض، نگرانی، کنٹرول، فریضہ، کار متعلقہ، مفوضہ کام، طائرانہ نظر، جائزہ، معائنہ، نظر ثانی، کنٹرولنگ باڈی (controling body)، کنٹرول بورڈ، عدالتی (یا سرکاری) تحقیقات، آبپاشی کا دور یا علاقہ۔ اور اسے تفتیش الری بھی کہا جاتا ہے: تفتیش جوّی: ہوائی یا فضائی معائنہ۔ مُفَتِّش: انسپکٹر، سپروائزر۔ مُفَتِّشیة: نظارت۔

فتغ: فَتَغَ ـفَتْغاً الشیءَ: پر قدم رکھ کر کچل ڈالنا، کو کچل دینا، ریزہ ریزہ کرنا۔ تَفَتَّغَ: کچلا جانا، ریزہ ریزہ ہونا۔

فتق: ١۔ فَتَقَ ـفَتْقاً و فَتَّقَ الشیءَ: کو پھاڑنا۔ — الثوبَ: کپڑے کی سیون توڑنا، کپڑے کو ادھیڑنا۔ — بین القوم: قوم میں اختلاف پیدا کرنا جس کی وجہ سے ان میں جنگ دوبارہ شروع ہو جانا۔ فَتِقَ ـفَتَقاً المکانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔ اَفْتَقَ القومُ: خوشگوار موسم سے متمتع ہونا۔ — قرنُ الشمس: آفتاب کا بادلوں میں سے نظر آنا۔ — السحابُ: بادل کا کھل جانا، چھٹ جانا۔ تَفَتَّقَ: پھٹنا۔ اِنْفَتَقَ: پھٹنا۔ — ت الماشیة: مویشی کا موٹا ہو جانا۔ الفَتْق (مص): سرسبزی۔ (طب): کھال کے نیچے ڈھلکنے والی بیماری۔ عوام لوگ اسے فِتَاق کہتے ہیں۔ — جمع فُتُوق: صبح: کشادہ جگہ۔ کہا جاتا ہے: خرج فلان الی فتق: فلاں شخص کشادہ جگہ کی طرف نکل گیا۔ الفَتَق: صبح۔ الفِتَاق: سورج کی پہلی شعاعیں، آفتاب۔ الفَتِیق: موٹائی سے پھٹ جانے والی چیز۔ الصبح الفتیق: روشن صبح۔ الفَیْتَق: دربان، بڑھئی لوہار۔ مَفْتَقُ القمیص: قمیص کا گریبان۔ المَفْتُوق (مفع): فتق کی بیماری والا۔

٢۔ فَتَقَ ـفَتْقاً و فَتَّقَ الکلامَ: کلام کو واضح کہنا۔ تَفَتَّقَ فلانٌ بالکلام: کی زبان کا رواں ہونا۔ امرأة فُتُقٌ و مُتَفَتِّقة: تیز زبان، جلد جواب دینے والی عورت۔ رجلٌ فتیقُ اللسان: تیز زبان مرد۔

٣۔ فَتَقَ ـفَتْقاً العجینَ: گندھے ہوئے آٹے میں خمیر ڈالنا۔ — و فَتَّقَ المسكَ: مشک کی خوشبو نکالنا۔ الفِتَاق: مختلف دواؤں کا مرکب خمیر۔

٤۔ اَفْتَقَ الرجلُ: پر آفتوں کا دباؤ ہونا۔ الفَتْق: زندگی میں خلل، خشک سالی، قحط سالی۔ — جمع فُتُوق: وہ جگہ جہاں بارش نہ ہوئی ہو لیکن ارد گرد بارش ہو چکی ہو۔ کہا جاتا ہے: عام ذو فُتُوق: کم بارش والا سال۔ الفُتُوق: آفتیں جیسے بیماری، بھوک، تنگ دستی اور قرض۔

٥۔ الفِتَاق: درخت خرما کی سفید جڑ۔ الفَیْتَق: بادشاہ۔

○ فَتَقَ ـفَتْقاً (ہ): کپڑے کی سیون توڑنا، کو ادھیڑنا، کے ٹانکے، بخیے توڑنا، سلائی ادھیڑنا، کو چیرنا، پھاڑنا، چیر کا شگاف ڈالنا، چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاٹنا۔ فَتَقَ الذهنَ: کو اس کا راستہ صاف اور واضح دکھانا، کو چیزیں ان کی اصلی روشنی میں دکھانا۔ الضرورةُ تفتقُ الحیلةَ: ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ فُتِقَت لهُ حیلةٌ: اس کے دل میں ایک بہانہ آیا، سے ایک بہانہ سوجھا۔ فَتَّقَ ہ: کی سیون، سلائی، ٹانکے توڑنا، کے بخیے ادھیڑنا، کو چیرنا، چاک کرنا، پھاڑنا، چیر کر شگاف ڈالنا، کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَفَتَّقَ: سیون، سلائی ادھڑنا، بخیے ٹانکے ٹوٹنا، پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، چرنا۔ — عن: کو وجود میں لانا، پیش کرنا، منصوبہ پکانا، کی تدبیر نکالنا یا کرنا، کا جتن کرنا، بندوبست کرنا، ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ اِنْفَتَقَ: (کپڑے وغیرہ کے) ٹانکے یا بخیے ٹوٹنا، کی سلائی یا سیون ادھڑنا، پھٹنا، چرنا، چاک ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ٹوٹنا، کٹنا۔ — عن: کو پیش کرنا، وجود میں لانا، تخلیق کرنا۔ فَتْق جمع فُتُوق: چیر، شگاف، پھٹا ہوا ہونا، چاک، درز، دراز، دراڑ، چیر، کاٹ، سوراخ، چھید، آنت کا خصیہ میں اتر جانا، بادخایہ (hernia) فوتوں کا ورم (rupture)۔ مصاب بالفتق: مرض بادخایہ، فوتوں کے ورم میں مبتلا۔ فِتَاق: بادخایہ، فوتوں کا ورم (hernia, rupture) فَتِیق: ٹانکے، سیون، سلائی، ادھڑا ہوا، پھاڑا ہوا، چیرا ہوا، کاٹا ہوا، چاک شدہ، تیز۔ مفتوق ادھڑا ہوا، پھاڑا ہوا، چیرا ہوا، کاٹا ہوا؛ فوتوں کے ورم میں مبتلا۔

فتك: ١۔ فَتَكَ ـفَتْکاً و فِتْکاً و فُتْکاً و فُتُوکاً الرجلُ: دلیر ہونا، بہادر ہونا، نڈر ہونا۔ — بفلان: کو اچانک دبوچنا یا قتل کر ڈالنا۔ فَاتَكَ مُفَاتَكَةً ہ: سے کھلم کھلا لڑائی کرنا۔ — الشیءَ و الامرَ: کو سختی سے کرنا۔ اَفْتَكَ الرجلُ: بمعنی فَتَكَ۔ تَفَتَّكَ بامرہ: کو خودرائی سے کرنا اور کسی سے مشورہ نہ کرنا۔ الفَاتِك (فا) جمع فُتَّاك: بہادر، دلیر۔ کہا جاتا ہے: هو فاتِكُ القلب: وہ کام کو کر گزرنے والا ہے۔

٢۔ فَتَكَ ـفَتْکاً و فِتْکاً و فُتْکاً و فُتُوکاً فی الامر: پر اصرار کرنا، کو خوب کرنا۔ — فُتُوکاً فی الخبث: خباثت میں مبالغہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ما اَفْتَكَهُ: وہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بہت جھگڑالو ہے۔
۳۔فَتَكَ ـفُتُوكًا فی صناعَتِهِ: اپنے پیشہ میں ماہر ہونا۔ فَاتَكَ مُفَاتَكَةً ہُ: کا ہنرمندی میں مقابلہ کرنا۔
۴۔ فَتَّكَ القُطْنَ: روئی دھنا۔
۵۔ فَاتَكَهُ مُفَاتَكَةً: کو منہ مانگی قیمت دینا۔
فَتَكَ ـفَتْكًا ب: کو قتل کرنا، کو دھوکے سے قتل کرنا۔ ـــ ب: کو تباہ کرنا، کو نیست و نابود کرنا۔ ـــ ب: پر اچانک حملہ کرنا، پر حملہ کرنا، دھاوا بولنا۔ فتك بـه فتكًا ذريعًا: کو روکنا، آگے نہ بڑھنے دینا، تباہ کرنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا، کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا، کو جڑ سے اکھاڑنا، کا قلع قمع کرنا، کا استیصال کرنا، (بیماری) کا کے بڑے حصہ کو تباہ یا ہلاک کر دینا۔ فَتْك: دھوکے سے قتل، قتل، تباہی، تباہ کاری، بربادی، فناءِ کامل۔ فَتْكَة جمع فَتَكَات: بربادی، ویرانی، غارت، تاراجی، تباہی، تباہ کاری۔ فَتَّاك: جان لیوا، مہلک، قاتلانہ ـــ ب: پر خوفناک اثر کرنے والا، پر تباہی لانے والا۔ أَفْتَك: زیادہ مہلک، زیادہ جان لیوا، زیادہ تباہ کن۔ فَاتِك جمع فُتَّاك: قاتل۔

فتل: ۱۔فَتَلَ ـفَتْلاً الحبلَ: رسی بٹنا۔ کہا جاتا ہے: فتل وجهَهُ عنهم: اس نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ فتل ذُؤَابَةَ فلانٍ: اس نے اس کو اس کی رائے سے ہٹا دیا۔ مازال يفتل من فلان في الذِرْوَةِ والغارب: وہ فلاں کی فریب دہی کیلئے چکر لگاتا ہے۔ فَتِلَ ـفَتَلاً: دور دور پہلوؤں والا ہونا صفت: أَفْتَل مونث فَتْلاء۔ فَتَّلَ الحبل: رسی بٹنا۔ تَفَتَّلَ و اِنْفَتَلَ: بٹا بٹا ہوا ہونا۔ الفُتْلَة جمع فُتَل: ایک بار بٹنا، ہاتھ کے پٹھے کی سختی۔ الفَتَّال: بہت بٹنے والا۔ الفَتِيل مونث فَتِيلَة: بٹا ہوا (دھاگا)، بدن کی میل کی بتی جو ملنے سے بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے: ما اغنى عنك فتيلاً: وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ الفَتِيلَة جمع فَتَائِل و فَتِيلات: وہ بتی جس سے چراغ روشن کیا جاتا ہے: المِفْتَل: بٹنے کا آلہ۔ مَفْتُول (مفع) الخَلْق: مضبوط اور گٹھے ہوئے جسم والا۔
۲۔فَتَلَ ـفَتْلاً البلبلُ: بلبل کا چہچہانا۔ الفَتَّال (ح): بلبل۔
۳۔ الفَتْلَة جمع فَتْل: بیری اور ببول کے دانے رکھنے کا برتن۔ کہا جاتا ہے: ما اغنى عَنْك فَتْلَةً: میں تم کو کچھ بھی فائدہ نہ دوں گا۔ الفَتَلَة جمع فَتَل: درخت عرفط یا عضاہ کا دانہ۔ کہا جاتا ہے: ما اغنى عنك فَتَلَةً: وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ الفَتِيل: کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں باریک بتی۔

فَتَلَ ـفَتْلاً ہ: کو بٹنا، کو بل ڈالنا، کو لپیٹنا، کو مروڑنا، کی چوٹی گوندھنا، کو کاتنا۔ فَتَّلَ ہ: کو بٹنا، کو بٹنا، مروڑنا، بل دینا، بٹ کر ہار بنانا، گھمانا، کا لچھا بنانا، کو چکر دینا، کو چوٹی کی صورت میں گوندھنا، (رسی کی) لڑیوں کو آپس میں بل دے کر گوندھنا۔ تَفَتَّلَ: بٹنا، بٹا جانا، گھمایا جانا، چوٹی کی صورت میں گوندھا جانا۔ اِنْفَتَلَ بمعنی تفتل۔ اِنْفَتَلَ من: کو ایڑیوں کے بل مڑ کر چھوڑ جانا، سے پھر جانا۔ اِنْفَتَلَ من الباب: دروازے سے چپکے سے نکلے جانا۔ شَمَّعَ الفَتْلَةَ: بھاگ جانا، فرار ہو جانا۔ فَتَّال: رسی بٹنے والا۔ فَتِيل: جمع فتيلات و فتائِل: بتی (wick)، شتابہ (جمع) فیتہ، بتی، بارود کی بتی (fuse)، تار کی بہت باریک جالی (gauze)، خون روکنے کے لئے روئی یا پٹی کی گدی (tampon)، توپ کے فتیلہ کی ڈوری۔ فَتِيلَة جمع فتيلات و فَتَائِل: بتی (wick)، بجلی کے قمقمہ کے باریک تار (filament) مَفْتُول: لمبا تڑنگا، گٹھیلا، زور آور، مضبوط جسم کا، گٹھا ہوا، پہرے کا مینار، دیدبان (نجد)۔ مَفْتُول الساعِد: مضبوط، گٹھا ہوا، ہٹا کٹا، سنڈا، مسٹنڈا، کسرتی بدن کا، موٹا تازہ، جسیم طاقتور۔

فتن: ۱۔فَتَنَ ـفَتْنًا و فُتُونًا ہُ: کو تعجب میں ڈالنا، مائل کرنا، فریفتہ کرنا۔ ـــ فُتُونًا و فَتِنَ اِلی النساء: عورتوں سے بدکاری کرنے کا ارادہ کرنا۔ فَتَّنَ و أَفْتَنَ ہُ: کو تعجب میں ڈالنا، مائل کرنا، فریفتہ کرنا۔ الفِتْنَة جمع فِتَن: مال و اولاد۔ فِتْنَةُ النهار (ن): ایک پودا جس کے پھول دن کے وقت کھلتے ہیں اور رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ الفَتَّان: فتنہ انگیز۔ الفَتَّانة: فَتَّان کا مونث۔
۲۔فَتَنَ ـفِتْنَةً و مَفْتُونًا فُلانًا: کو گمراہ کرنا۔ ـــ فَتْنًا فلانًا عن رأيه: کو اس کی رائے سے روک دینا، پھیر دینا۔ فُتِنَ فی دینِهِ: دین سے اعراض کرنا۔ اِفْتَتَنَ فی دینِهِ: دین سے اعراض کرنا۔ الفِتْنَة جمع فِتَن: گمراہی، کفر، رسوائی۔ الفاتِن (فا): حق سے گمراہ کرنے والا، شیطان، چور۔ الفَتَّان: شیطان، چور۔
۳۔فَتَنَ ـفَتْنًا و فُتُونًا ہُ: کو فتنہ میں ڈالنا۔ ـــ الرجُلُ: فتنہ میں پڑنا (لازم و متعدی) صفت: فاتِن جمع فَتَّان۔ فَتَّنَ و أَفْتَنَ ہُ: کو فتنہ میں ڈالنا۔ تَفَتَّنَ ہُ: کو فتنے میں ڈالنے کے لئے تکلف کرنا۔ اِفْتَتَنَ: فتنہ میں پڑنا ـــ ہُ: کو فتنہ میں ڈالنا۔ الفِتْنَة جمع فِتَن: اختلاف آراء۔ لوگوں کے مابین واقع ہونے والی جنگ وجدل۔

۴۔فَتَنَ ـفِتْنَةً و مَفْتُونًا فلانًا: کی آزمائش کرنا۔ ـــ فَتْنًا الشیءَ: کو جلا دینا۔ ـ فِتْنَةً الصائِغُ الذهبَ: سنار کا سونے کو پگھلا کر کھوٹا کھرا معلوم کرنا۔ فُتِنَ: مصیبت زدہ ہو کر مال یا عقل کا جاتا رہنا۔ اِفْتَتَنَ: بمعنی فُتِنَ۔ الفَتْن (مص): حال، فن، قسم۔ العُمرُ فَتْنان: عمر کی دو قسمیں ہیں، اچھی اور بری یا میٹھی اور کڑوی۔ الفِتْنَة (مص) جمع فِتَن: آزمائش، عبرت، عذاب بیماری، جنون، دیوانگی۔ الفَتَّان: سنار۔ الفَتَّانان: سونا اور چاندی۔ الفَتَّانة: کسوٹی۔ الفَتِين جمع فُتُن (ط ا): سیاہ گرم زمین جس کے پتھر جل گئے ہوں۔ ذهبٌ فَتِين: جلا ہوا سونا۔ الفَتِين: بڑھئی۔ المَفْتُون (مفع): دیوانہ۔
فَتَنَ ـفَتْنًا و فُتُونًا ہُ من: کو سے پھیر دینا۔ ـــ ہ: کو آزمائشوں اور لالچوں میں ڈالنا، کو اکسانا، ترغیب دینا، پھنسانا، ورغلا، پھسلا کر لے جانا، موہ لینا، لبھانا، دھوکا دینا، کو فریفتہ کرنا، گرویدہ کرنا، لبھانا، شیفتہ کرنا، مسحور کرنا، وجد میں لانا، لٹو کرنا۔ فَتَنَ ـفَتْنًا ہ: کو سخت اذیت پہنچانا یا دینا۔ ـــ علی: کے خلاف مخبری کرنا۔ فُتِنَ بِ: پر فریفتہ ہونا، سے مسحور ہونا، پر لٹو ہونا، کا گرویدہ ہونا، سے محبت ہو جانا، پر پاگل ہو جانا، کے پیچھے پاگل سا ہو جانا۔ أَفْتَنَ ہُ: کو فریفتہ کرنا، گرویدہ، مسحور کرنا۔ اِفْتَتَنَ ہ: کو حرص و طمع میں ڈالنا۔ اِفْتَتَن: مسحور ہونا، سحر زدہ ہونا، اکسائے میں آنا، لٹو ہونا، فریفتہ ہونا۔ اِفْتَتَنَ و اُفْتُتِنَ: حرص و طمع میں آ جانا، صحیح راستے سے ہٹ جانا نیز اُفْتُتِنَ بمعنی فُتِنَ۔ فِتْنَة جمع فِتَن: ترغیب، تحریص، لالچ، آزمائش، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دلبری، دل آویزی، حسن و جمال، کشش، ورغلانا، غلط راہ پر لگانا، فریفتگی، شیفتگی، سازش، ساز باز، گٹھ جوڑ، بغاوت انگیز تقریر یا اقدام، بلوہ، فساد، اودھم، دھما چوکڑی، اختلاف، نااتفاقی، ان بن، نزاع، جھگڑا، فساد۔ مفاتن: دلکش خوبیاں، حسن و جمال، ساحرانہ قوتیں۔

فتو: ۱۔فَتَا ـفَتْوًا الرجُلَ: پر جوانمردی اور سخاوت میں غالب ہونا۔ فَاتَى الرجُلَ: پر جوانمردی اور سخاوت میں غالب آنے کی کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے: فاتونی ففتوتهم: انہوں نے جوانمردی اور سخاوت میں مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی تو میں ان پر غالب ہو گیا۔ تَفَتَّى تَفَتِّيًا الرجُلُ: سخی ہونا۔ تَفَاتَى: سخی ہونا، اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنا۔ الفُتُوَّة: سخاوت اور جوانمردی۔ الفتى تثنیہ فَتَوان و فَتَيان جمع فِتْيَان و فِتْيَة و فِتْوَة و فُتُوّ و فُتِيّ و فِتِيّ: سخی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فتی -فتیً جوان ہونا۔ فتّی تفتیۃً ت البنت:
۲۔ پردہ نشین ہونا، لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے اجتناب کرنا۔
تفتی تفتیًا: جوان ہونا۔ ــ ت البنت لڑکی کا پردہ
نشین ہونا، لڑکوں کے ساتھ کھیلنا بند کرنا۔ ــ الرجل:
جوان بننا، جوانوں کا انداز اختیار کرنا۔ کہا جاتا ہے:
أبرد من شیخ یتفتی جوانوں کے انداز اختیار
کرنے والے بوڑھے سے زیادہ ٹھنڈا۔ الفتاء و
الفتوہ جوانی۔ الفتی تثنیہ فتوان و فتیان
جمع فتیان و فتیۃ و فتوۃ و فتوّ و فتیّ و فُتیّ:
نوجوان، غلام۔ الفتیان: رات اور دن۔ کہا جاتا
ہے: لا أفعلہ ما اختلف الفتیان: جب تک رات
دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے میں یہ ہرگز
نہیں کروں گا۔ الفتاۃ جمع فتیات و فتوات فتی کا
مؤنث، نوجوان عورت، لونڈی۔ الفتیّ جمع فتاء و
افتاء م فتیۃ: ہر ایک جواں سال۔ الفتیّۃ (ن):
ایک پھولدار پودا۔
۳۔ فاتی الرجل: سے پوچھنا۔ أفتی إفتاءً فلانا فی
المسألۃ کو کسی مسئلہ میں فتوی دینا۔ تفاتی القوم
الی العالم لوگوں کا فتوی دریافت کرنے کے لیے
عالم کے پاس جانا۔ استفتی استفتاء العالم فی
مسألۃ عالم سے کسی مسئلہ میں فتوی طلب کرنا۔ الفتوی
و الفتوی و الفتیاء جمع الفتاوِی و الفتاوَی:
شرعی مسائل میں ماہر شریعت کا فیصلہ۔ المفتی (فا)
ماہر علم فقہ جو مسائل کا جواب دے سکے۔
فتِی -فتاءً: نوجوان ہونا، جوان ہونا۔ أفتی ہُ فی
کو کسی مسئلہ میں یا اس کے متعلق باقاعدہ قانونی رائے
دینا، کو کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، سے کسی
نظریہ وغیرہ کی وضاحت کرنا، کو کچھ پیش کرنا۔ ــ فی
کے بارے میں رائے دینا۔ ــ ب کے لئے یا کے حق
میں قانونی رائے کے ذریعے فیصلہ کرنا۔ ــ بان
(قانونی) رائے کے طور پر بیان کرنا کہ...... استفتی
ہ فی سے میں یا کے بارے میں باقاعدہ قانونی رائے
دریافت کرنا، سے کے بارے میں حسب ضابطہ رائے
طلب کرنا۔ ــ ہ فی کے بارے میں کی معلومات کی
استدعا کرنا، سے میں یا کے متعلق مشورہ طلب کرنا،
سے میں یا کے بارے میں مشورہ کرنا، کے بارے میں
کسی کی رائے طلب کرنا۔ فتی جمع فتیان و فتیۃ
جوان، نوجوان، نوعمر، اچھی جوانی والا، کمسن، نابالغ،
غلام، ہیرو (hero)۔ فتوی جمع فتاوٍ و فتاوی
فتیا: فتوی۔ فتوۃ: جوانی، کم سنی، جوانمردی،
سخاوت، نیک دلی جمع فتوات غنڈا، دھونسیا، مردم

آزار، بھاڑے کا غنڈا، جھگڑالو، دنگی، فسادی، مار پیٹ پر
اترانے والا، بددیانتی کا کاروبار کرنے والا۔ استفتاء:
استصواب، استصواب رائے عامہ (referendem)،
رائے شماری، (plebiscite)، سرکاری قانونی رائے
کیلئے درخواست، صلاح مشورہ، مشاورت، مشورہ
کرنا۔ استفتاء الشعب یا استفتاء شعبی
استصواب رائے عامہ (plebisute, referendem)
مفتی فتوی دینے والا۔
فتّ: فتّ -فتًا القفۃ ٹوکری کی چیزیں بکھیرنا۔
ــ الحارّ بالبارد گرم کو ٹھنڈا کرنا، جوش کم کر دینا۔
انفتّ العود لکڑی کا ٹوٹنا۔ ــ الرجل سے
شکستہ دل ہونا۔ تمر فتّ متفرق کھجوریں۔ المفتۃ:
زیادتی، کثرت۔
فثأ: فثأ -فثأ و فثوءًا القدر ہانڈی کا جوش ٹھنڈا کرنا۔
ــ الغضب غصہ کی تیزی کم کرنا۔ ــ الشیء عنہ
کو سے روکنا۔ افثأ تھکنا، سست ہونا۔ الحرّ کا
گھٹ جانا، کم ہو جانا۔ ــ بالمکان میں اقامت
کرنا، ٹھہرنا۔ انفثأ الحرّ گرمی کا کم ہو جانا۔
○ فثا -فثا ہ کو بجھانا (جیسے بھوک، پیاس وغیرہ)
فثج -فثجا الشیء کو کم کرنا۔ ــ الماء الحار
بالبارد ٹھنڈے پانی سے گرم پانی کی گرمی کم کرنا۔
و فثج و افثج و افثج کو جھل ہونا۔ کہا جاتا ہے:
فلان بحر لا یفثج: فلاں بحر ناپید اکنار ہے۔
الفاثج (فا) جمع فواثج حاملہ اونٹنی۔
فثر: الفاثور سنگ مرمر کی میز، آفتاب کی ٹکیہ، فرش، بڑا
پیالہ، شراب کا برتن، جاسوس۔
فثغ: فثغ -فثغا راسہ کا سر پھوڑنا۔
فج: فجّ -فجًّا ما بین رجلیہ دونوں پیروں کو کشادہ
اور دور کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: فجّ الشیء فانفج
اس نے چیز کو پھاڑا تو وہ پھٹ گئی۔ ــ ت الناقۃ للحلب
اونٹنی کا دودھ دوہنے میں ٹانگیں پھیلانا۔ ــ القوس
کمان کھینچنا۔ ــ فججا چلنے میں ٹانگوں کا درمیان
کشادہ ہونا۔ صفت: أفجّ م فجّاء جمع فج: افجّ
ما بین رجلیہ ٹانگیں چوڑی کرنا صفت: مُفِجّ۔
فی المشی جلدی چلنا، دو پہاڑوں کے درمیان
چوڑے راستہ پر چلنا۔ ــ الأرض بالمحرات:
زمین پر ہل چلانا۔ تفاجّ ٹانگیں پھیلا کر چلنا۔ انفجّ
ت القوس کمان کا کھنچ جانا۔ افتجّ الرجل درہ
کوہ میں چلنا، دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ پر
چلنا۔ الفجاج دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ،
درہ۔ الفجّ جمع فجاج دو پہاڑوں کے درمیان

کشادہ راستہ۔ الفجۃ: دو پہاڑوں کے درمیان
کشادگی۔ الإفجیج وادی، تنگ اور گہری
وادی۔ کہا جاتا ہے: فلان یمشی مفاججًا: فلاں
شخص اپنی ٹانگیں پھیلا کر چلتا ہے۔
۲۔ الفجّ و الفجاجۃ من الفواکہ و غیرہا کچا میوہ
وغیرہ۔ الفُجُج نیچے کاہل وست لوگ جن کی صحبت
کو ناپسند کیا جائے۔
○ فجّ -فجًا رجلیہ ٹانگیں پھیلانا۔ افجّ کو ک بھرنا،
جلدی چلنا۔ فجّ جمع فجاج کشادہ راستہ، دو پہاڑوں
کے درمیان سڑک۔ من کل فجّ عمیق یا من کل
فجّ و صوب ہر طرف سے، سب جگہوں سے۔
فجّ کچا، ہرا (پھل)؛ غیر مہذب (گفتگو)۔
فجأ: فجأ -و فجِیءَ -فجأ و فجأۃ و فُجاءۃ و
فاجأ مفاجأۃ و افتجأ افتجاء الرجل پر اچانک
ٹوٹ پڑنا، کے پاس رات کو بے خبری میں آنا، پر
سبقت کرنا۔ الفجاءۃ (مص) اچانک۔ حرف
المفاجأۃ لفظ اذا ہے۔ جیسے خرجت فاذا الاسد
بالباب اس کو اذا الفجائیۃ بھی کہتے ہیں۔ اس کے
بعد اسم ابتداء کی وجہ سے مرفوع اور خبر محذوف ہوتی ہے
اور عموماً یہ خبر "موجود" ہوتی ہے۔
○ فجا -و فجِیءَ -فجأ و فجأۃ و فجاءۃ و
فاجأہ ب کے پاس اچانک آ جانا، پر غیر متوقع طور پر
آ پڑنا، ٹوٹ پڑنا، کا اچانک سامنا کرنا یا غیر متوقع
طور پر کے سامنے آ جانا، کو بے خبری میں آلینا۔ ــ ہ
ب کو سے حیران کر دینا۔ ــ ہ پر حملہ کرنا۔ فجأۃً
و فجاءۃً یکایک، اچانک، غیر متوقع طور پر، بے
خبری میں، ناگہاں۔ فجائی اچانک، غیر متوقع،
حیرت انگیز۔ مفاجأۃ جمع مفاجآت اچنبھا، خلاف
توقع بات، تعجب، حیرت، بے خبری میں جالینا۔ فُجائیٌ:
اچانک غیر متوقع، حیرت انگیز۔ مفاجیءٌ اچانک،
یکلخت، یکایک، غیر متوقع، حیرت انگیز۔ مفاجئات:
حیرت انگیز واقعات، حیرتیں، خلاف توقع باتیں۔
فجر: فجر -فجرا الماء پانی (کا راستہ کھول کر)
اسے جاری کرنا اور بہانا۔ ــ القناۃ نالی نکالنا۔
اللہ الفجر اللہ تعالیٰ کا صبح کر دینا۔ فجّر الماء:
زور سے پانی بہانا، جاری کرنا۔ تشدید مبالغہ کے لئے
ہے۔ افجر فجر میں داخل ہونا۔ ــ الینبوع:
چشمہ جاری کرنا۔ تفجّر الماء پانی کا جاری ہونا۔
ــ الصبح صبح کا روشن ہونا۔ انفجر الماء پانی
کا جاری ہونا۔ ــ الصبح صبح کا روشن ہونا۔ ــ عنہ
اللیل سے رات کا ختم ہو جانا۔ ــ علیہم العدوّ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پر دشمن کا کثرت سے اور ہر طرف سے آجانا۔
اَلفَجْرُ: صبح کی روشنی۔ کہا جاتا ہے:
طَرِیقٌ فَجْرٌ: کھلا ہوا صاف راستہ۔
اَلفَجْرَۃ جمع فُجَر: پانی بہنے کی جگہ۔ وادی کا وہ وسیع و عریض حصہ جس میں پانی بہتا ہو۔ مِن الوادی
دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستے۔ الصحار
اَلمَفْجَرَۃ و المُنْفَجَر: پانی بہنے کی جگہ۔
مُنْفَجَرُ الرَّمل: ریگستان میں بنا ہوا راستہ۔

۲۔ فَجَرَ ـُـ فُجُوراً عن الحق: حق سے تجاوز کرنا۔
عن سرجہ: زین سے ایک طرف جھک جانا۔
فَجْراً و فُجُوراً: جھوٹ بولنا، زنا کرنا، گناہ کرنا۔
امرُھم: کا معاملہ بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔
ـ فُجُراً فلانٌ: کی نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، کو جھٹلانا۔
فَجَّرَ الرجل: کی بدکاری کی طرف نسبت کرنا۔
فاجَرَ: عورت سے زنا کرنا۔
فِجاراً و مُفاجَرۃً المرأۃ:
اَفْجَرَ: حق سے تجاوز کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، کفر کرنا۔
ـ فلاناً: کو فاجر پانا۔
تَفاجَرَ القومُ: گناہوں میں منہمک ہونا۔
اِفْتَجَرَ فی الکلام: بات گھڑ لینا، بناوٹی بات کہنا۔
الفَجْرَۃ: فجر کا اسم مرۃ بمعنی ایک بار۔ کہا جاتا ہے:
رَکِبَ فَجْرَۃً: وہ جھوٹ پر سوار ہوا یعنی جھوٹ بات بنائی۔ تانیث اور علمیت کی وجہ سے غیر متصرف ہے۔
فَجارِ: الفجور کا اسم ہے اور معرفہ ہے۔ جیسے:
فحملتُ بَرَّۃً واحتملتَ فَجارِ
بَرّۃ بِرّ سے اسم ہے۔ عورت کو فَجارِ کہا جاتا ہے یعنی اے فاجرہ۔ اور صرف نداء ہی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ (میں نیکی لے کر آیا اور تو گناہ)۔
الفاجر (فا) جمع فاجرون و فَجَرَۃ و فُجّار: زانی، گناہوں کے پیچھے چلنے والا، جادوگر۔
الفاجِرَۃ: فاجر کا مونث۔ کہا جاتا ہے:
یمینٌ فاجرۃ: جھوٹی قسم۔
الفاجور: زانی، گناہوں میں منہمک۔
الفَجُور جمع فُجُر: زانیہ، زانی، گناہوں میں منہمک۔

فَجِرَ ـَـ فَجَراً و فُجُوراً: کمزور نگاہ والا ہونا۔
فَجَرَ ـُـ فَجْراً و فُجُوراً من مرضہ: صحیح و تندرست ہونا۔

فَجَرَ ـُـ فَجْراً: فیاضی و سخاوت کرنا۔
اَفْجَرَ: مال کثیر لانا۔
تَفَجَّرَ و انْفَجَرَ بالعطاء: فیاضی و سخاوت کرنا۔
الفَجَر: سخاوت، بخشش، عطیہ، بھلائی، مال، کثرتِ مال۔

۳۔ فَجَرَ ـُـ (زمین) کو پھاڑنا، چیرنا، تباہ کرنا، (دبی ہوئی چیز) کو کھود کر نکالنا۔
ـ فُجُوراً: گناہ کرنا، عیاشی کرنا، بدچلنی کی زندگی بسر کرنا، عیاشیوں میں منہمک ہونا، بدکاری کرنا، زنا کرنا۔
فَجَّرَ ہ (پانی وغیرہ کیلئے) راستہ بنانا، میں پانی نکلنے کا راستہ بنانا۔
(پانی وغیرہ) کو بہانا، جاری کرنا۔ کو پھاڑنا، چیرنا۔ (کو بھک سے اڑانا، کا دھماکہ کرنا۔
اَفْجَرَ: بدکاری کرنا، زنا کرنا۔
تَفَجَّرَ: زور سے نکلنا، پھوٹ نکلنا، یکا یک نکلنا، پھیل جانا، پھوٹ پڑنا، توڑ کر نکل جانا۔
اِنْفَجَرَ بمعنی تَفَجَّرَ: پھوٹنا، خارج ہونا، پھٹنا، دھماکے سے پھٹنا، پھٹ کر اڑ جانا، توڑ (کر) نکلنا، بھک سے اڑ جانا، زور سے پھٹنا، دھماکے کے ساتھ اڑنا۔ میں بکثرت ہونا۔
انفجر علی: پر اچانک آ پڑنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا، پر جھپٹنا۔
اَلفَجْر: سویرا، تڑکا، طلوع صبح، طلوع سحر، فجر، صبح کا جھٹپٹا، (مجازاً) آغاز، شروع، ابتداء۔ (مونث) فجر کی نماز۔
فُجُور: فحاشی، بداخلاقی، بے انصافی، فسق و فجور، سیاہ کاری، بدکاری، عیاشی، آوارگی، اوباشی، لفنگا پن، آوارگی اور بدچلنی کی زندگی، زنا، حرامکاری، ناجائز جنسی تعلق، زن غیر منکوحہ سے زنا، غیر شادی شدہ عورت سے برضا مجامعت، زنا کاری۔
انفجار جمع انفجارات: پھوٹ پڑنا، پھٹنا، زمین کے اندر سے اوپر آ جانا، زور سے پھٹنا، دھماکا، انفلاق، انشقاق۔
مواد الانفجار: دھماکے سے پھٹنے والے، بھک سے اڑ جانے والے مادے۔
اِنْفِجاری: دھماکے سے اڑ جانے والا، دھماکے کے ساتھ پھٹنے والا، بارود سے اڑانے والا۔
مُتَفَجِّر بمعنی انفجاری۔ مُنْفَجِر بمعنی انفجاری۔
فاجِر: رند مشرب، آوارہ، بدکار، لچا، شہدا، آزادرو، فاسق، فاجر، عیاش، شہوت پرست، تماش بین، زانی، زناکار، جھوٹا، گستاخ، بے تمیز، بدتہذیب، بے شرم، بے حیا، بے عزت۔ مونث:
فاجرہ جمع فواجر: زانیہ۔ کسبی، رنڈی، فاحشہ، چھنال، پچی، طوائف، بیسوا۔

فجس: فَجَسَ ـِـ فَجْساً: تکبر کرنا، شرارت گھڑنا۔
ـ فلاناً: کو مغلوب کرنا۔
اَفْجَسَ: باطل پر فخر کرنا۔
تَفَجَّسَ علیہ: پر تکبر کرنا، پر بڑائی ظاہر کرنا۔

۱۔ فجع: فَجَعَ ـَـ فَجْعاً و فَجَّعَ ہ: کو دردمند کرنا، (اس کے اہل اور مال سے محروم کرکے)۔ کہا جاتا ہے:
فُجِعَ فی مالہ و بمالہ: اسے مال کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔
اَفْجَعَتْہُ المصیبۃ: مصیبت کا آدمی کو اس کی محبوب چیزوں سے محروم کر کے تکلیف میں مبتلا کرنا۔
تَفَجَّعَ: دردمند ہونا۔
الفاجع (فا): انسان کو لاحق ہونے والا بڑا غم۔ جدائی کا کو اسے کہا جاتا ہے:
امرأۃٌ فاجع: [illegible]
کرنے والا، سراسیمہ۔
موتٌ فاجِع: لوگوں پر مصائب لانے والی موت۔
الفاجِعَۃ جمع فَواجِع: شدید حادثہ، مصیبت، ڈرامہ، ٹریجڈی، حزنیہ، المیہ۔
موتٌ فَجُوع: لوگوں پر مصیبت لانے والی موت۔
الفَجِیعَۃ جمع فَجائع: مصیبت۔
رَجُلٌ مُتَفَجِّع: افسوس کرنے والا، سراسیمہ۔

۲۔ اِنْفَجَعَ: پیٹو، پرخور، کھاؤ ہونا۔ صفت:
فَجْعان: (عام زبان میں) مَفْجُوع
اسم الفَجْعَۃ
تَفَجَّعَ ـُـ فَجْعَلۃً: کے سر پر مصیبت اور سخت غم مسلط کرنا، کو ایذا دینا، دکھ پہنچانا، تکلیف میں ڈالنا، مغموم کرنا۔
ـ ہُ ب: کو کسی سے محروم کرکے سخت غمزدہ کرنا۔
فُجِعَ بولدہ: وہ اپنے بیٹے کی موت سے سخت متاثر ہوا۔
فَجَّعَ: کو سخت اذیت دینا، کو سخت کوفت پہنچانا، تنگ کرنا، دل دکھانا، مغموم کرنا، رنج پہنچانا، رنجیدہ کرنا، دکھ پہنچانا۔
تَفَجَّعَ: دردناک طور پر متاثر ہونا یا ہو جانا، ذہنی طور پر مغموم ہونا۔
فَجْعَۃ: پرخوری، بسیار خوری۔ پرخوری، بسیارخوری۔
فَجّاعَۃ: تکلیف دہ، دردناک، المناک، پرملال، صبر آزما۔
فُجُوع: حادثہ، مصیبت، آفت، سیہ بختی، سانحہ جمع
فَجِیعَۃ:
فَجائع۔ فَجْعان: بہت بھوکا، ندیدہ، بڑا لالچی، پیٹو، کھاؤ، پرخور، بھوک سے بے حال۔
تَفَجُّع: سوہانِ روح، روحانی اذیت، ذہنی تکلیف، ایذا، دکھ، تکلیف، سخت غم۔
فاجِع: دردناک، تکلیف دہ، المناک، پرملال، صبر آزما، رنج دہ۔
فاجِعَۃ جمع فَواجِع: حادثہ، مصیبت، آفت، سیہ بختی، سانحہ، بلائے ناگہانی، ڈرامہ، المیہ، حزنیہ، ٹریجڈی۔
مُفْجِعات: خوف، دہشتیں، خوف زدہ کرنے والی چیزیں۔

فجل: فَجَلَ ـُـ فَجْلاً و فَجِلَ ـَـ فَجَلاً: ڈھیلا اور موٹا ہونا۔
فَجَّلَ الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔
فَجَلَ الشیءَ: کو گھڑنا، ایجاد کرنا۔
الفَجْل: جو اہل کے والا، جوازی۔ الاُمیر
الاَفْجَل: وہ شخص جس (فام) کے دونوں قدموں کے درمیان دوری ہو۔
الفُجْل و الفُجُل: مولی (ایک ترکاری)۔
واحد فُجْلَۃ (ن):
الفَجّال: مولی فروش۔

فجم: فَجِمَ ـَـ فَجَماً: موٹے جبڑے والا ہونا۔ صفت:
اَفْجَم۔ فَجَمَ ـِـ فَجْماً ہ: (چاقو) کو کھنڈا کرنا۔ میں دندانے ڈالنا، کھنڈا ہونا،
تَفَجَّمَ و انْفَجَمَ: دندانے دار ہونا، (عام زبان میں)۔
تَفَجَّمَ و اِنْفَجَمَ الوادی: وادی کا کشادہ ہونا۔
فَجْمَۃُ الوادی و فُجْمَۃُ الوادی: وادی کی کشادہ جگہ۔
فجن: اَفْجَنَ: سداب کھانے میں مداومت کرنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الفُیْجَن (ن): سُداب (ایک قسم کی نبات) اسے سَذاب بھی کہتے ہیں (یونانی لفظ)۔

فجو: فَجَا ـفَجْوًا البابَ: دروازہ کھولنا۔ ـ القوسَ: کمان کھینچنا۔ فَجِیَ ـفَجًا: پنڈلیوں یا پیروں کے درمیان دوری کرنا۔ صفت: اَفْجٰی مونث فَجْوَاء۔ ـ ت القوسُ: کمان کا کھنچا ہوا ہونا۔ ـ ت الناقۃُ: اونٹنی کا بڑے پیٹ والی ہونا۔ تَفَاجَی: کشادہ جگہ ہونا۔ اِنفَجَی البابُ: دروازہ کھلنا۔ ـ القومُ عن فلانٍ: سے علیحدہ ہونا، ہٹ جانا۔ ـ ت القوسُ: کمان کھنچ جانا۔ الفَجْوَۃ جمع فَجَوَات و فِجَاء: دو چیزوں کے درمیان کشادگی، گھر کا صحن، کشادہ زمین۔ الفَجْوَاء: اَفْجٰی کا مونث، کشادہ زمین۔

◌ فَجْوَۃ جمع فَجَوَات و فِجَاء: شگاف، سوراخ، درز، موکھا، روشن دان، روزن، رخنہ، افقی لوح قبر۔

فجی: فَجِیَ ـفَجًی: پنڈلیوں یا پاؤں کے درمیان دوری کرنا۔ فَجَّی تَفْجِیَۃً الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ ـ الشیءَ عنہ: کو سے دور کرنا، علیحدہ کرنا۔ اَفْجٰی اِفْجاءً الرجلُ: بال بچوں پر خرچ میں وسعت کرنا۔

فَحَّ: ا۔ فَحَّ ـفَحًّا و فَحِیحًا و تَفْحَاحًا النائمُ: سونے والے کا خراٹے لینا۔ ـ ت الافعی: سانپ کا پھنکارنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: فَحَّت الرائحۃُ: خوشبو کا پھیلنا۔ الفُحُح: پھنکارنے والے سانپ۔ فُحَّۃُ الفلفلِ: مرچ کی تیزی۔ الفَحِیح (مص) فحیحُ الافعی: سانپ کی پھنکار۔

۲۔ فَحْفَحَ: نیند میں خراٹے لینا، آواز بیٹھ جانا، گلو گرفتہ ہونا۔ الفحفاح م فحفاحۃ: بیٹھی ہوئی آواز والا، گلو گرفتہ بہت بولنے والا۔

◌ فَحَّ ـفَحًّا و فحیحًا: (سانپ کا) پھنکارنا۔ (طوفان کا) سیٹیاں بجانا۔

فحج: ا۔ فَحَجَ ـفَحْجًا: تکبر کرنا۔

۲۔ فَحِجَ ـفَحَجًا و فَحْجَۃً فی مشیتہ: قدم کے اگلے حصے کو قریب اور ایڑیوں کو دور کرنا، صفت: اَفْحَج۔ فَحَّجَ فی مشیتہ: قدم کے اگلے حصے کو قریب اور ایڑیوں کو دور کرنا۔ ـ رِجْلَیْہِ: ٹانگوں کو پھیلانا۔ اَفْحَجَ عن الامر: سے رکنا، ہٹ جانا۔ تَفَحَّجَ الرجلُ: ٹانگوں کو پھیلانا۔ اِنْفَحَجَ ت ساقاہُ: کی ٹانگوں کا دور دور ہونا۔

فحس: فَحَسَ ـفَحْسًا الشیءَ من الماء وغیرہ: کسی چیز کو ہاتھ میں لے کر زبان سے چاٹنا۔

فحش: ا۔ فَحُشَ ـفُحْشًا و فَحاشَۃً الامرُ: برا ہونا۔ ـ ت المرأۃُ: عورت کا قبیح ہونا، بوڑھی ہونا۔ ـ

فَحَّشَ بِہٖ: پر طعن و تشنیع کرنا۔ اَفْحَشَ: بری بات کہنا، برا کام کرنا۔ تَفَحَّشَ علیھم بلسانِہٖ: سے بدکلامی کرنا، کو گالیاں سنانا۔ تَفَاحَشَ: بری بات کہنا، برا کام کرنا۔ ــــ الامرُ: قباحت میں زیادہ ہونا۔ الفُحْش (مص): قبیح قول یا فعل۔ الفاحِش مونث فاحِشۃ: بدصورت، قبیح، بدخلق۔ کہا جاتا ہے: غبنٌ فاحِش: پر فریب کھیل، ناقابل برداشت فراڈ۔ رجلٌ فاحِشٌ: قول اور جواب میں حد سے گزرنے والا۔ مونث فاحشۃ۔ الفاحِشَۃ جمع فَوَاحِش و الفَحشاء: زنا، بہت سخت قبیح گناہ۔ الفَحَّاش م فَحَّاشَۃ: فاحش کا اسم مبالغہ۔

۲۔ اَفْحَشَ الرجلُ: بخل کرنا۔ الفاحِش م فاحِشَۃ: بہت بخیل۔

◌ فَحُشَ ـفُحْشًا: ننگ انسانیت ہونا، حد سے زیادہ ہونا، بہت زیادہ ہونا، بے انداز ہونا، نہایت قابل نفرت ہونا، سخت نفرت انگیز ہونا، کریہ ہونا، خبیث ہونا، نابکار ہونا، بے درد ہونا، فحش ہونا، ناشائستہ ہونا، اخلاق سے گرا ہوا ہونا، نامناسب ہونا، ناموزوں ہونا، برا ہونا، خراب ہونا، بے شرم ہونا، بے حیا ہونا، ڈھیٹ ہونا۔ اَفْحَشَ: ناشائستہ زبان استعمال کرنا، بدذاتیاں کرنا۔ تَفَاحَشَ بمعنی فَحُشَ و اَفْحَشَ۔ فُحْش: ننگ انسانیت ہونا، کراہت، ظلم، بے دردی، سفاکی، بدذاتی، فحاشی، ناشائستگی، فحش، نازیبائی، ناشائستہ زبان۔ فَحشاء: ننگ انسانیت ہونا، نفرت، اشکراہ، ظلم، بے دردی، بدذاتی، سفاکی، برا کام، جرم، زنا، بدکاری، زنا کاری۔ فَحَّاش: ناشائستہ، فحش، اخلاق سے گرا ہوا، بدکار، عیاش، تماش بین، اوباش، شہوت پرست، بولنے اور عمل میں بے شرم، بے حیا۔ تالیف فَحَاش: فحاشی، طوائفی ادب porno graphy۔ تفاحش: ننگ انسانیت ہونا، نفرت انگیزی، مکروہ پن۔ فاحِش: ننگ انسانیت (شخص) غیر معتدل، بہت زیادہ، بے اندازہ، بے حد (گراں)، بہت (مہنگا)، بیہودہ، لغو، بے سروپا، خلاف عقل، غیر موزوں، غیر مناسب، خلاف فطرت، بے معنی، نامعقول، مکروہ، قابل نفرت، غلیظ، ناپاک، کریہ، ناگوار، گھناؤنا، نفرت انگیز، ظالم، نابکار، خبیث، بدذات، نامرغوب، انمل، بے جوڑ، مخالف، متضاد، ناپسندیدہ، برگشتہ کرنے والا، نفرت انگیز، ناشائستہ، فحش، نازیبا، سوقیانہ، بے حیائی کا، بے شرمی کا، خلاف تہذیب، بدزبان، بدصورت، کمینہ یا پاجی پن کا، بے ادب، بے تمیز، گستاخ، شوخ چشم۔ فاحِشَۃ: کسبی، رنڈی، کنچنی، چھنال، فاحشہ عورت، طوائف۔

جمع فَوَاحِش: انسانیت سوز عمل، ظلم، نابکاری، خبث، خباثت، برا کام، جرم، زنا کاری، بدکاری، فسق، حرامکاری، بدکاری، زنا۔ مُفْحِشَۃ: کسبی، رنڈی، کنچنی، طوائف۔

فحص: ا۔ فَحَصَ ـفَحْصًا عنہ: کی تفتیش کرنا، کھود کریدنا۔ فاحَصَ فِحَاصًا و مُفَاحَصَۃً ہٗ: ایک دوسرے کے عیوب اور بھیدوں کی تلاش و جستجو کرنا۔ تَفَحَّصَ و افْتَحَصَ عنہ: کی کھود کرید کرنا۔ الفَحْص (مص) جمع فُحُوص: امتحان، آزمانا۔ الفَحْصَۃ: فحص کا اسم مرۃ بمعنی ایک دفعہ امتحان لینا۔ الفَحَّاص: بہت تلاش و جستجو کرنے والا۔ الفَحِیص: ساتھی کے عیوب اور بھیدوں کو معلوم کرنے میں لگا رہنے والا۔

۲۔ فَحَصَ ـفَحْصًا المطرُ الترابَ: بارش کا مٹی کو الٹ پلٹ کر دینا۔ ــــ الترابَ: مٹی کھودنا۔ ــــ برجلِہٖ: پاؤں سے کھودنا، کریدنا۔ ـ للخبزۃ: روٹی کے لئے آگ میں جگہ بنانا۔ فَحَّصَ و افْحَصَ ہٗ عنہ: کو سے دور کرنا۔ الفَحْص جمع فُحُوص: ہر رہنے کی جگہ۔ المَفْحَص جمع مَفَاحِص و الاُفْحُوص جمع اَفَاحِیص: وہ جگہ جو سنگخوار انڈے دینے کے لئے تلاش کرے۔ کہا جاتا ہے: لیس لہ مَفْحَصُ قطاۃ: اس کے لئے سنگخوار کے انڈے دینے جتنی جگہ بھی نہیں۔

۳۔ فَحَصَ ـفَحْصًا الظبیُ: ہرن کا تیز دوڑنا۔

۴۔ الفُحْصَۃ: ٹھوڑی کا گڑھا، چاہ زنخدان، چاہ ذقن۔

◌ فَحَصَ ـفَحْصًا ہ: زمین کی کھود کریدنا۔ ـ ہٗ: کا امتحان لینا۔ ـ ہ: کا طبی طور پر بغور مشاہدہ کرنا۔ ـ ہ/ہ: کو جانچنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ کرنا۔ ـ ہ: کی تفتیش کرنا۔ ـ ہ/ہ: کی جانچ پڑتال کرنا۔ ـ عن: کو ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا، کے بارے میں پوچھنا، کی تفتیش کرنا، کے بارے میں معلومات طلب کرنا۔ تَفَحَّصَ عن: کو ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا، کے بارے میں پوچھنا، کی تفتیش کرنا، کے بارے میں معلومات طلب کرنا۔ ــــ ہ/ ہ: کا طبی معائنہ کرنا۔ فَحْص جمع فُحُوص: آزمائش، امتحان، (طبی یا مدرسہ کا) طبی معائنہ، تفتیش، جانچ پڑتال، تلاش، تحقیقات، پوچھنا، دریافت کرنا۔ اُفْحُوص جمع اَفَاحِیص: گڑھا جس میں پرندہ انڈے دیتا ہے، گھونسلا بنانے کی جگہ، نسل کشی کی جگہ۔

فحل: ا۔ فَحَلَ ـفَحْلًا و افْتَحَلَ اھلَہٗ فحلًا کریمًا: جفتی کے لئے عمدہ سانڈ ڈھونڈنا۔ تَفَحَّلَ: سانڈ کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مشابہ ہونا۔ الفَحل جمع فُحول و اَفحُل و فِحال و فِحالَة و فُحولَه (ح): ہر حیوان کا نر، سانڈ۔ فُحول الشعراء: فضیلت رکھنے والے شعراء، ہجو کرنے میں غالب ہونے والے شعراء۔ الفَحلَة من النساء: ایسے اخلاق والی جو عورت جنس کے لائق نہ ہو، تیز زبان عورت۔ الفِحلَة و الفُحولَة و الفِحالَة: مردانگی۔ الفَحِيل: نر، سانڈ، مردانگی کا پیکر۔ فَحْل فَحِيل: شریف نسل مرد۔

۲۔ تَفَحَّلَ الشجرُ: درخت کا بے پھل ہونا۔ اِستَفحَلَت النخلةُ: درخت خرما کا نر کھجور جیسا ہونا۔ الفُحّل و الفُحّال جمع فَحاحِيل: نر کھجور۔

۳۔ اِستَفحَلَ الامرُ: بڑا ہونا، سنگین ہونا۔

○ اِستَفحَلَ علیٰ: (معاملہ کا) کے لئے بھیانک ہونا، ڈراؤنا ہونا، تکلیف دہ ہونا، نہایت اہم ہونا، بھاری ہونا، مخدوش ہونا، مشکل ہونا۔ استفحل: بے قابو ہو جانا، حد سے زیادہ ہو جانا (نقصان کا)، ناقابل تلافی ہونا۔ فَحل جمع فُحول: (بڑے جانوروں کا) نر، نسل کشی والا گھوڑا، ممتاز شخصیت، مشہور شخصیت، ستارہ (نامی شخص) عظیم فنکار، شاندار (شخص یا شے)۔ الشعراء الفُحول: عظیم شعراء۔ فُحولَة: فضیلت، شرف، برتری، تفوق (کا) مکمل یا کامل نمونہ، کمال۔ اِستفحال: دہشت ناکی، ہولناکی، شدت، اہمیت، متانت، تشویشناکی، مشکل۔ مُستَفحِل: خوفناک، ہولناک، دہشت ناک، سنگین، تشویشناک، اہم، مشکل، حد سے زیادہ، ناقابل برداشت، بہت زوردار، قابو سے باہر، خطرناک طور پر پھیلنے والا۔

فحم: ۱۔ فَحَمَ ـَ فَحْماً: جواب نہ دے سکنا۔ فَحُمَ ـُ و فَحِمَ فَحْماً و فُحاماً و فُحوماً الصبیُّ: بچے کی آواز روتے روتے بند ہو جانا۔ اَفحَمَ ہٗ: کو دلیل دے کر خاموش کرنا۔ کہا جاتا ہے: هاجاهُ فأفحَمَهُ: اس نے اس کا ہجو میں مقابلہ کیا تو اس نے اسے خاموش کر دیا۔ ــــ الهمُّ الشاعِرَ: غم کا شاعر کو شعر کہنے سے منع کرنا۔ اَفحَمَ الصبیُّ: بچے کی آواز کا روتے روتے بند ہو جانا۔ الفُحوم: جواب نہ دے سکنے والا۔ المُفحِم فا۔ جوابٌ مُفحِمٌ: مسکت جواب۔ المُفحَم (مفع): بے زبان، گونگا، شعر نہ کہہ سکنے والا۔ کہا جاتا ہے: وجدتُهُ مُفحَماً: اس نے اسے شعر نہ کہہ سکنے والا پایا۔

۲۔ فَحَمَ ـُ فُحوماتِ البئرُ: کنویں کے پانی کا ٹھہرنا۔ الفاحِم (فا)۔ ماءٌ فاحِمٌ: ٹھہرا ہوا پانی۔

۳۔ فَحُمَ ـُ فُحوماً و فُحومَةً: کالا ہونا۔ فَحَّمَ الشيءَ: کو کالا کرنا۔ اَفحَمَ الرجُلُ: عشاء کے وقت کی تاریکی میں داخل ہونا۔ الفاحِم: کالا۔ الفَحْم و الفَحَم: کوئلہ۔ الفَحمَة جمع فِحام و فُحوم: کوئلے کا ٹکڑا۔ فحمةُ اللیل: رات کی سخت تاریکی۔ الفَحّام جمع فَحّامَة: کوئلہ فروش۔ الفَحّامَة: اٹلی کی ایک جماعت جس کے ارکان ایک خفیہ سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ carbonaro، فری میسن freemason۔ رجُل فَحّام: ملحد، بے دین۔ الفُحومَة: سیاہی۔ الفَحِيم: کوئلہ، کالا۔ (ك): دیکھئے الکربون (carbon)۔ المِفحَم: گاڑیوں کے انجنوں میں وہ جگہ جہاں ایندھن سے ہوا کا امتزاج ہوتا ہے (جیسے کار کے انجن میں)۔ المَفحَمَة: کوئلوں کی جگہ، وہ جگہ جہاں کوئلے بنائے جاتے ہیں۔ عام لوگ اسے مشرہ کہتے ہیں (یہ لفظ سریانی الاصل ہے)۔

○ فَحُمَ ـُ فُحوماً و فُحومَةً: کالا ہونا یا ہو جانا۔ فَحَمَ ـَ فَحْماً: گم سم ہونا، دم بخود ہونا، جواب نہ دے سکنا۔ فَحَّمَ ہٗ/ہ: کو (لکڑی کے کوئلے سے) کالا کرنا، کو کالا بنانا۔ ــــ ہٗ: کو جلا کر کوئلہ بنانا، کو کاربن بنانا، کو لکڑی کے کوئلہ کی شکل میں تبدیل کرنا۔ اَفحَمَ ہٗ: کو گم سم کرنا، کو دم بخود کرنا، کے اوسان خطا کرنا، کو دہشت زدہ کرنا، کو دلائل سے خاموش کرنا، اکھڑ پن سے کسی کی بھوک اڑا دینا، کو چلتا کرنا (to give some one the brush off)۔ فَحْم: (واحد فحمة) کوئلہ، کوئلے، (لکڑی کا) کوئلہ، کوئلے جمع فُحومات: کوئلے، کوئلوں کی قسمیں۔ فحمٌ حَجَری: پتھر کا کوئلہ۔ فحم حطب: لکڑی کا کوئلہ۔ فحم قوالب: کوئلے کے چورے اور مٹی سے بنی ہوئی اینٹیں۔ فحم كوك: کوک (coke)۔ فَحمَة جمع فحمات: کوئلے کا ڈلا یا ڈلی۔ فحمةُ اللیل: گہری تاریک رات جمع فِحام و فُحوم: سیاہی۔ فَحمی: کالا، کوئلے جیسا کالا۔ فَحِيم: کالا، سیاہ۔ فَحّام: کوئلہ کا تاجر، کوئلہ فروش، کان سے کوئلہ نکالنے والا، کان کن۔ فاحِم: کالا، سیاہ۔ اسود فاحم یا فاحمُ السواد (مونث): کوئلہ جیسا کالا، کالا سیاہ، قیر گوں، کالا بھجنگ۔

فحو: فَحا ـَ فَحْواً و فَحَّی بکلامه اِلی کذا: اپنے کلام سے کسی مضمون کی طرف اشارہ کرنا۔ الفَحا و الفِحا جمع اَفحاء: مسالہ یا خشک مسالہ۔ الفَحوَی و الفَحواءُ و الفُحَواء من الکلام جمع فَحاوٍ: مضمون کلام، کلام کا معنی۔

○ فَحوَى یا فَحواء: مطلب، مفہوم، معنی، ٹھیک مفہوم، اہمیت، منشاء، نیت، مدعا (خط، تقریر وغیرہ کا)۔

فخ: ۱۔ فَخَّ ـِ فَخّاً و فَخِيخاً النائمُ: سونے والے کا خراٹے لینا۔ ــــ تِ الأفعی: سانپ کا پھنکارنا۔ اِفتَخَّ النائمُ: سونے والے کا خراٹے لینا۔ الفَخَّة: خراٹے لینے والے کی نیند۔

۲۔ فَخَّ ـِ فَخّاً و فَخِيخاتُ الرائحةُ: خوشبو کا بھڑکنا۔

۳۔ فَخَّ ـَ فَخّاً و فخفيفاتُ رِجلاهُ: کی ٹانگوں کا کمزور ہونا۔ صفت: اَفَخّ مونث فَخّاء جمع فُخّ۔

۴۔ الفَخّ جمع فِخاخ و فُخوخ: جال کہا جاتا ہے: وثب فلان من فخّ الشیطان: اس نے گناہ سے توبہ کر لی۔ الفَخّة: گندی عورت۔

۵۔ فَخفَخَ فَخفَخَةً الرجُلُ: باطل پر فخر کرنا۔ الفَخفَخَة (مص): کاغذ یا نئے کپڑے کی کھڑکھڑاہٹ، باطل پر فخر۔

○ فَخّ جمع فِخاخ و فُخوخ: گڑھا، پھندا، دام، جال، جانور پکڑنے کا پنجرا۔

فخت: ۱۔ فَخَتَ ـَ فَخْتاً السقفَ: چھت میں سوراخ کرنا۔ ــــ رأسَهُ بالسیف: کے سر پر تلوار مارنا۔ ــــ الشيءَ: کو کاٹنا۔ ــــ الاناءَ: برتن کھولنا۔ اِنفَخَتَ السقفُ: چھت کا سوراخ دار ہونا۔ الفَخت: چھت میں گول سوراخ۔

۲۔ فَخَتَ ـَ فَختاً الرجُلُ: جھوٹ بولنا۔

۳۔ فَخَّتَتِ الفاخِتَةُ: فاختہ کا کوکو کرنا۔ تَفَخَّتَ: فاختہ کی چال چلنا، تعجب کرنا۔ الفَخت: چاند کی روشنی یا چاند کا سایہ۔ الفاخِتَة جمع فَواخِت (ح): فاختہ، ایک پرندہ کا نام۔

۴۔ الفَخت: جال۔

○ فَخَتَ ـَ فَختاً ہٗ: میں سوراخ کرنا، چھید کرنا۔

فخج: فَخَجَ ـَ فَخجاً الرجُلُ: تکبر کرنا۔ فَخِجَ ـَ فَخَجاً: جدا جدا رانوں والا ہونا۔ صفت: اَفخَج۔

فخذ: ۱۔ فَخَذَ ـَ فَخذاً ہٗ: کی ران پر مارنا، کی ران کو توڑنا۔ فُخِذَ: کی ران کا توڑا جانا۔ تَفَخَّذَهٗ: کی ران پر ران رکھنا۔ الفَخذ و الفِخذ و الفَخِذ جمع اَفخاذ (ع ا): ران، (یہ لفظ مونث سماعی ہے)۔

۲۔ فَخَّذَ قومَهٗ: اپنے لوگوں کو قبیلہ وار پکارنا۔ ــــ بینهم: کو جدا جدا کرنا۔ ــــ القومَ عن فلان: کو مدد نہ دینا۔ ــــ فلاناً: کو قبیلہ سے بھگا دینا۔ اِستَفخَذَ: جھک جانا، مطیع ہو جانا۔ الفَخذ جمع اَفخاذ: قبیلہ (مذکر)

۳۔ تفخذ: معاملہ سے ہٹ جانا۔

○ فِخذ و فَخذ و فِخذ (مونث) جمع اَفخاذ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ران (بھیڑ بکری وغیرہ کے گوشت کی) ٹانگ، قبیلہ کی ایک شاخ (چھوٹی)۔ فَخِذَة: (بھیڑ بکری وغیرہ کے گوشت کی) ٹانگ، ران۔ فَخِذِی و فَخْذِی: ران یا ران کی ہڈی کے متعلق۔

فخر: ا۔ فَخَرَ ـفَخْراً و فَخَراً و فَخَاراً و فَخَارَةً و فِخِّيرَى و فِخِّيراء: فخر کرنا (اپنے یا اپنے اہل کی امتیازی خصوصیات، شاندار کارناموں اور عالی ظرف اعمال پر)۔ ـــهُ: پر فخر میں غالب ہونا۔ ـــهُ علی فلان: کو فخر میں پر فضیلت دینا۔ فَخِرَ ـفَخَراً و تَفَخَّرَ منه: پر ناک چڑھانا، تکبر کرنا۔ فَخَّرَ و أَفْخَرَهُ علی فلان: کو فخر میں فضیلت دینا۔ فَاخَرَ فِخَاراً و مُفَاخَرَةً ہُ: پر فخر میں غالب ہونا۔ تَفَاخَرَ القومُ: بعض کا بعض پر فخر کرنا، ہر ایک کا اپنے اپنے مَفَاخِر پر فخر کرنا۔ اِفْتَخَر: فخر کرنا۔ الفَخْر و الفَخَر (مص): فضیلت، بڑائی۔ الفُخْرَة: فخر۔ الفُخُور: فخر کرنے والا۔ الفخیر: فخر کرنے والا، فخر میں مغلوب۔ الفِخِّير و الفِخِّيرَة: بہت فخر کرنے والا (تاء مبالغہ کے لئے ہے)۔ المَفْخَرَة و المَفْخُرَة جمع مَفَاخِر: افعال حمیدہ وہ اعمال جن پر فخر کیا جائے۔
۲۔ اِسْتَفْخَرَ الشیءَ: کو قابل فخر سمجھنا، کو قابل فخر بنانا۔ الفَاخِر: ہر چیز میں کا عمدہ۔
۳۔ الفاخور جمع فَوَاخِير: ایک قسم کا پھول۔ الفَاخُورَة: مٹی کے برتن بنانے کی جگہ (عام بول چال میں)۔ الفَخَّار (واحد فَخَّارَة): مٹی کے برتن، ٹھیکری پکی ہوئی مٹی۔ الفَخَّارَة جمع فَخَّار: مٹی کا مرتبان۔ الفَخَّارِی: کمہار، مٹی کے برتن بیچنے والا (عام لوگ اسے فاخوری کہہ کر پکارتے ہیں)۔
○ فَخَرَ ـفَخْراً و فَخَراً و فَخَاراً ب: پر اترانا، ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا، پر فخر کرنا۔ فَخِرَ ـ فَخَراً: نفرت کرنا، حقیر جاننا، حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ فَاخَرَهُ: کے ساتھ ناموری، بزرگی وغیرہ میں مقابلہ کرنا۔ ـــ ب: پر مغرور ہونا، متکبر ہونا، پر فخر کرنا۔ ـــ ہ ب: کے سامنے کی ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا۔ تَفَخَّرَ: مغرور و متکبر ہونا۔ تَفَاخَرَ و اِفْتَخَرَ بمعنی فَخَرَ۔ اِسْتَفْخَرَ ہ: کو بہت عمدہ یا اعلی پانا۔ فَخْر: ناموری، بزرگی، جلال، گھمنڈ، فخر، فخر و ناز، فخر و مباہات، لاف زن شاعری۔ غیرَ فخرٍ یا ولا فخر: بغیر کسی شیخی یا فخر کے (کہتا ہوں)۔ فَخْرِی: اعزازی۔ فَخْرَة: ناموری، بزرگی جلال، گھمنڈ، فخر۔ فَخَار: ناموری، بزرگی، جلال گھمنڈ، فخر۔ فَخُور: لاف زن، ڈون کی لینے والا، شیخی بگھارنے والا۔ ـــ ب: پر خوش، شاداں۔ فَخِير: ڈینگیں مارنے والا، شیخی بگھارنے والا، شیخی خورہ، تحکمانہ انداز اختیار کرنے والا، دون کی لینے والا۔ فَخَّار: پکی ہوئی مٹی، مٹی کے برتن، کراکری (crockery)۔ فَاخُورَة: مٹی کے برتن، ظروف سازی کا کارخانہ۔ فاخوری: کمہار۔ اَفْخَر: زیادہ عمدہ، زیادہ شاندار، زیادہ پر شکوہ۔ مَفْخَرَة جمع مَفَاخِر: فخر کی بات وغیرہ، وہ چیز جس پر گھمنڈ کیا جائے، شاندار کارنامہ، کار نمایاں، کارنامہ، پُر شکوہ خصوصیت یا خوبی۔

فخز: فَخَزَ ـو فَخِزَ ـفَخْزاً و فَخَزاً و تَفَخَّزَ: تکبر کرنا، بڑائی ظاہر کرنا۔ الفَخْز (مص): فضیلت

فخل: تَفَخَّلَ: حلم و وقار ظاہر کرنا، اپنے سب سے اچھے کپڑے پہننا۔

فخم: فَخُمَ ـفَخَامَةً: موٹا ہونا، تخیم ہونا، عظیم المرتبہ ہونا۔ فَخَّمَهُ: کی تعظیم کرنا۔ ـــ الحروف فی اللفظ: حروف کو پُر پڑھنا۔ الفَخْم: عظیم المرتبہ۔ ـ من المنطق: درست بات۔ الفُخُمِيَّة: بڑائی، برتری۔ الأَفْخَم: اعظم، بڑے مرتبہ والا۔
○ فَخُمَ ـفَخَامَةً: شان و شوکت والا ہونا، پُرشکوہ، رعب دار ہونا، مرعوب کن ہونا، شاندار ہونا، عالیشان ہونا، بڑا ہونا، عظیم ہونا۔ فَخَّمَ ہ: میں شدت پیدا کرنا۔ ـــ ہ: کی عزت کرنا، سے احترام سے پیش آنا، کی تعظیم کرنا، کا ادب و احترام کرنا۔ ـــ ہ: (کسی حرف) کو زوردار بنانا، کسی لفظ کا زور دے کر تلفظ کرنا۔ فَخْم: شان و شوکت والا، پرشکوہ، رعب دار، مرعوب کن، شاندار، بہت عمدہ، بڑا، عظیم۔ فَخَامَة: شان و شوکت، رعب داری، مرعوب کن وضع قطع، شان و شکوہ، چمک دمک، آب و تاب، امتیاز، اونچا رتبہ، غیر بادشاہی ریاست کے سربراہ کا لقب، غیر ملکی معزز عہدے داروں کو دیا جانے والا لقب جیسے اعلیحضرت، والا حضرت، مونث علیا حضرت اور فضیلت مآب (highness, excellency) جن کے ساتھ His یا Her لگایا جاتا ہے۔ صاحب الفخامة I you بھی کہا جاتا ہے۔ فخامة الدولة: جمہوریہ کے صدر کا لقب۔ فخامة رئیس الدولة: ان ہی معنوں میں۔ فخامة الرئیس: کسی غیر ملکی سربراہ مملکت کا لقب (His Excellency, the President)۔ فخامة المعتمد السامی: بمعنی His excellency, the High Commissioner فضیلت مآب، ہائی کمشنر۔ آلة التفخیم: آلہ جہیر الصوت، بلند گو (amplifier)۔ مُفَخَّم: معزز۔ الحروف المُفَخَّمة: تاکیدی حروف۔

فد: ا۔ فَدَّ ـفَدِيدًا الطائرُ: پرندے کا پھڑ پھڑانا۔
۲۔ فَدَّ ـفَدِيْدًا ت الإبلُ: اونٹوں کا زمین کو کھروں سے روندنا، چھیلنا، کریدنا۔ ـــ الرجُلُ: دوڑنا۔ فَدَّدَ: تکبر و غرور سے چلنا۔ الفَدَّاد جمع فَدَّادُون: متکبر، بہت روندنے والا، سینکڑوں ہزاروں اونٹوں کا مالک۔
۳۔ فَدَّ ـفَدِيداً الرجُلُ: آواز بلند کرنا۔ فَدَّدَ: خرید و فروخت میں چلانا۔ الفَدَّاد جمع فَدَّادُون: بہت چلانے والا۔ الفَدَّادُون: چرواہے، اونٹ والے، گائے بیل والے، کاشتکار اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ جن کی آواز کھیتی باڑی اور مویشیوں میں بلند ہوتی ہو۔ الفَدَّادَة: فَدَّاد کا مونث (ح): مینڈک۔
۴۔ الفَدَّادَة: بزدل۔
۵۔ فَدْفَدَ فَدْفَدَةً: آواز بلند کرنا۔ الفُدْفُد و الفَدْفِد: سخت آواز والا، بلند آواز والا۔
۶۔ فَدْفَدَ فَدْفَدَةً: بھاگتے ہوئے دوڑنا۔ الفُدْفُد و الفُدْفِد: زمین کو بہت زیادہ روندنے والا۔
۷۔ الفَدْفَد جمع فَدَافِد: سخت جگہ، بلند جگہ، جنگل۔
○ فَدْفَد جمع فَدَافِد: بنجر زمین، ویران اور غیر آباد زمین کا ایک قطعہ، بیابان، ریگستان۔

فدح: فَدَحَ ـفَدْحًا ہُ الامرُ او الحِملُ او الدَّينُ: کو کسی معاملہ، یا سامان یا قرض کا گرانبار کرنا، یا ان کا اس پر بوجھ ہونا اور اسکو حد سے زیادہ زیر بار کرنا۔ اَفْدَحَ و اسْتَفْدَحَ الامرَ: کو بوجھل پانا۔ الفادِح: مشکل، بوجھل۔ کہا جاتا ہے: نزل بہ امرٌ فادِحٌ و رکبَهٗ دینٌ فادِحٌ: اس پر ایک گرانبار کام آ پڑا اس پر قرض گرانبار ہو گیا۔ الفادِحَة جمع فَوَادِح: سخت مصیبت۔ فَوَادِحُ الدهرِ: مصائب زمانہ۔
○ فَدَحَ ـفَدْحًا ہُ: پر تکلیف دہ ہونا، پر بوجھ ڈالنا، لادنا، کا دل پر بوجھ ہونا۔ اِسْتَفْدَحَ ہ: کو بوجھل سمجھنا، تکلیف دہ سمجھنا۔ فَدَاحَة: سختی جابریت، بار، گرانی، بار ہونا۔ اَفْدَح: زیادہ سخت، زیادہ گراں، زیادہ بوجھل، زیادہ بھاری، زیادہ تکلیف دہ، زیادہ، زیادہ متین و سنجیدہ، زیادہ بھاری۔ فادِحة جمع فَوَادِح: آفت، بلا، مصیبت، شامت، قہر، ناگہانی مصیبت۔

فدخ: فَدَخَ ـفَدْخًا الشیءَ: کو توڑنا۔ ـــ العودَ: تازہ لکڑی کو توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

فدر: ا۔ فَدَرَ ـفَدْرًا و فُدُورًا اللحمُ المطبوخُ: پکے ہوئے گوشت کا ٹھنڈا ہونا۔ الفِدْرَة جمع فِدَر:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ٹھنڈے پکے ہوئے گوشت کا ٹکڑا۔ الفَادِر جمع فُدُر و فَوَادِر و فُدُور: ٹھنڈا پکا ہوا گوشت۔

۲۔ فَدَّرَ الحجارۃَ: چھوٹے بڑے پتھر توڑنا۔ تفَدَّر الحجرُ: پتھر کا ٹوٹنا۔ الفَدِر: جلدی ٹوٹنے والی لکڑی۔ الفِدْرَۃ جمع فِدَر: پہاڑ کا ایک حصہ، رات کا ایک ٹکڑا۔

۳۔ الفَدَر جمع فُدُور و الفَدُور جمع فُدُر (ح): پہاڑی بکرا۔ الفَدِر: بیوقوف۔ الفُدُرَۃ: قوم سے علیحدہ رہنے والا اور تنہا جانے والا۔ الفَدُر: چاندی، موٹا لڑکا۔ الفادِر جمع فُدُر و فَوَادِر و فُدُور (ح): پہاڑی بکرا، علیحدہ رہنے والی اونٹنی۔ الفادِرَۃ: فادر کا مؤنث، پہاڑی کی چوٹی پر بڑی چٹان۔ المَفْدَرَۃ: وہ جگہ جہاں بہت سے پہاڑی بکرے رہتے ہوں۔

○ فدر جمع فُدُور: جنگلی بکرا، مرگ، ہرن، سانبھر، نیل گائے، روہی، سابر۔

فدس: اَفْدَسَ الرجُلُ: کے گھر یا دروازہ پر مکڑیوں کا ہونا۔ الفُدُس جمع فِدَسَۃ (ح): مکڑی۔ الفَیْدَس: منکا۔

فدش: فَدَشَ ـفَدْشًا رأسَہُ: کا سر پھوڑ دینا۔ ـفَدْشًا ہٗ: کو دفع کرنا، عام لوگ اسے دَفَشَہٗ کہتے ہیں۔ الفَدْش (ح): مادہ مکڑی، پھوہڑ، بےوقوف۔

فدع: فَدَعَ ـفَدْعًا ہٗ: کو کچلنا، یا تھوڑا سا پھاڑنا۔ فَدِعَ ـفَدَعًا: ٹیڑھے جوڑوں والا ہونا۔ صفت: اَفْدَع مونث فَدْعاء جمع فُدْع۔ فَدَّعَ ہٗ: کے جوڑ ٹیڑھے کر دینا۔ الفَدَع: ہاتھ یا پیروں کے جوڑوں میں کجی، جوڑوں کی کجی۔ الفَدَعَۃ: جوڑوں کی کجی کی جگہ۔

فَدَغَ ـفَدْغًا ہٗ: کو توڑنا۔ انفَدَغَ: ٹوٹنا۔ ـ الشیءُ الیابسُ: خشک چیز کا نرم ہونا۔ المِفْدَغ جمع مَفَادِغ: توڑنے کا آلہ۔ فدک: فَدَّکَ القطنَ: روئی دھننا۔ ـ ہ القطنَ: سے روئی دھنوانا۔

فدم: ا۔ فَدَمَ ـفَدْمًا الابریقَ و علی الابریق: چھاگل پر سر بند لگانا۔ فَدَّمَ و اَفْدَمَ فَمَ الآنیۃ: برتن پر سرپوش رکھنا۔ الفِدام جمع فُدُم: چھوٹی چھلنی، یا کپڑا جو لوٹے وغیرہ کے منہ پر لوٹنے میں ڈالی جانے والی چیز کو صاف کرنے کے لئے باندھا جاتا ہے۔ و الفِدَامَۃ: چھینکا جو اونٹ کے منہ پر اس لئے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ کھایا کاٹ نہ سکے۔ الفِدَام جمع فُدُم و الفَدَّام و الفَدَّامَۃ و الفَدُّوم: بمعنی الفِدَام۔ المُفَدَّمات: قبضے والے لوٹے، مٹکے۔

۲۔ فَدُمَ ـفُدُومَۃً و فَدَامَۃً: بیوقوف ہونا۔ الفَدْم م فَدْمَۃ جمع فِدام: کلام میں عاجز، بیوقوف، کم سمجھ، گاڑھے خون والا۔

۳۔ الفَدْم م فَدْمَۃ جمع فِدام: گہرے سرخ رنگ والا۔

○ فَدَمَ ـفَدْمًا ہٗ: (کا) منہ بند کرنا، (موکھا، روزن، سوراخ) بند کرنا۔ فَدْم جمع فِدام: بےتکا، مٹھا، سست، کند ذہن، غبی، بیوقوف، احمق۔

فدن: ا۔ فَدَّنَ الإبلَ: اونٹوں کو موٹا کرنا۔

۲۔ فَدَّنَ البناءَ: عمارت کو بلند کرنا۔ الفادِن جمع فَوَادِن (ب): وہ آلہ جس سے تعمیر کی درستگی کا امتحان کیا جاتا ہے۔ الفَدَن جمع اَفْدان: بلند عمارت۔

۳۔ فَدَّنَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ رنگنا۔ الفَدَن جمع اَفْدان: سرخ رنگ۔

۴۔ الفَدَان جمع فُدُن و اَفْدِنَۃ و فَدَادِین: بیلوں کی جوڑی جو ہل میں جتے ہوئے ہوں۔ الفَدّان جمع فُدُن و اَفْدِنۃ و فَدَادِین: بمعنی الفَدَان: کھیتی۔ ـ فی المساحۃ: چار سو مربع قصبہ زمین (سریانی لفظ)۔ فَدّانُ الارض عند الفلاحین: اتنی زمین جو بیلوں کی جوڑی ایک دن میں کاشت کر سکے۔

○ فَدَّنَ ہٗ: کو ہموار کرنا، مویشیوں کو موٹا کرنا، چارہ کھانے کیلئے تھان پر باندھ رکھنا۔ فَدّان جمع فَدَادِین: بیلوں کی جوڑی جمع اَفْدِنَہ: ایک مربع کا پیمانہ۔ جو ۴۲۰۰،۸۳۳ میٹر کے برابر ہوتا ہے (مصری پیمانہ)۔ فادِن جمع فوادِن: شاقول، شاقول کی ڈوری، ڈوری سے بندھا ہوا لٹو جس سے زیر تعمیر دیوار کی سیدھ دیکھی جاتی ہے۔ ساہول، گنیا۔

فدو: الفَدَوْکس (ح): شیر، مضبوط مرد۔

فدی: ا۔ فَدَی ـفَدًی و فِدًی و فِداءً الرجُلَ من الأسر و نحوہ: مال وغیرہ دے کر کسی کو قید وغیرہ سے چھڑانا۔ صفت (اسم فاعل): فادٍ: صفت (اسم مفعول): مَفْدِی: کہا جاتا ہے: فَدَتِ المرأۃُ نَفْسَہا من زوجہا: عورت نے مال دے کر اپنے خاوند سے طلاق لے لی اور چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ـ و فَدَّی تَفْدِیَۃً فلانًا بنفسہ: کو اپنے متعلق کہنا کہ میں تم پر فدا کیا جاؤں۔ فَادَی فِداءً و مُفاداۃً الرجُلَ: کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا یا فدیہ دے کر چھڑانا، چھوڑنے کی درخواست کرنا۔ اَفْدَی اِفْداءً فلانًا الاسیرَ: سے قیدی کا فدیہ قبول کرنا۔ تَفَادَی تَفَادِیًا القومُ: ایک دوسرے پر فدا ہونا، بعض کا بعض کے ذریعے بچنا۔ ـ الرجُلُ من کذا: سے پرہیز کرنا، اور یکسو ہونا۔ اِفْتَدَی بہٖ: فدیہ دے کر چھٹنا ـ منہ بکذا: سے بچنا۔ کہا جاتا ہے: اِفتدت المرأۃُ نفسہا من زوجہا: عورت کا مال دے کر اپنے شوہر سے طلاق لینا اور چھٹکارا حاصل کرنا۔ اِنْفَدَی اِنْفِداءً: فدیہ دیا جانا۔ الفِداء و الفَدَی و الفِدَی: فَدَی کے مصدر۔ وہ مال جو چھڑانے کے لئے دیا جائے۔ کہا جاتا ہے: فِداکَ ابی و فِدًی لکَ ابی: یعنی میں تمہارے اوپر اپنے باپ کو فدا کرتا ہوں۔ اس جملہ سے دعاء و اظہار محبت و تعریف و توصیف کا ارادہ کرتے ہیں۔ کبھی فعل محذوف ہوتا ہے اور حرف باء کو باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں: بابی التلمیذ المجتہد: میں اس محنتی طالب علم پر اپنے باپ کو فدا کرتا ہوں۔ الفِدائی: جانباز، عالم فدائی یا جندی فِدائی: جانباز عالم یا فوجی۔ الفِدْیَۃ جمع فِدًی و فِدْیات: وہ مال جو چھڑانے کے لئے دیا جائے۔ الفادِی (فا): حضرت مسیح علیہ السلام کا لقب جنہوں نے اپنا خون دے کر انسانوں کو بچا لیا (عیسائیوں کا عقیدہ)۔ المُفاداۃ: دشمن کو اس کی قوم کا قیدی دے کر اپنی قوم کا قیدی اس سے حاصل کرنا۔

۲۔ اَفْدَی اِفْداءً الرجُلُ: موٹا ہونا۔ الفَداء جمع اَفْدِیَۃ: جسم، کوٹھی یا برتن جن میں گیہوں، جو یا کھجوریں وغیرہ رکھی جاتی ہیں۔ وہ جگہ جہاں تاجر سامان اور اناج وغیرہ کا ڈھیر لگا کر رکھتا ہے۔

○ فَدَی ـفَدًی و فِداءً ہ/ ہ ب: کو کوئی چیز بطور فدیہ دے کر چھڑانا۔ ـ ہ ب: کے لئے کی قربانی دینا۔ فَادَی ب: کی قربانی دینا، کو پیش کرنا۔ تَفَادَی من: سے بچنا، سے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا، سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ـ ہ/من: سے دور ہونا، دور رہنا، سے چھٹکارا حاصل کرنا، کو نہ ہونے دینا، کو دور کرنا، سے بال بال بچنا، کا ازالہ کرنا، سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا۔ اِفْتَدَی بمعنی فَدَی۔ نیز افتدی ہ ب: کو کوئی اور چیز کی قربانی دے کر حاصل کرنا۔ افتدی ب: اپنے آپ کو کوئی چیز بطور فدیہ دے کر چھڑانا۔ ـ من: اپنے آپ کو سے آزاد کرانا۔ افتداء بالنفس: کسی شخص یا چیز کے لئے اپنی قربانی دینا، کسی شخص یا چیز کے لئے اپنی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالنا۔ فِدًی و فَدًی: فدیہ دے کر چھڑانا، فدیہ، قربانی (کیلئے، کو بچانے یا آزاد کرانے کے لئے)۔ جُعِلْتُ فِداکَ: میں تمہارے قربان جاؤں۔ مات فدی للوطن: اس نے اپنے وطن کی خاطر موت کو گلے لگایا۔ فِدْیَۃ جمع فِدْیات و فِدًی: فدیہ، نجات، چھڑانا، فک کرانا، کفارہ۔ فِداء: فدیہ، نجات، چھڑانا، فک کرانا، فدیہ دینا، قیمت جو کسی شخص کو کسی چیز

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے لئے ادا کرنی پڑے۔ قربانی (جو کوئی شخص کسی چیز کے لئے دیتا ہے)۔ جَعَلَ کلَ شیءٍ فداءَهٗ: اس نے اس کے لئے ہر چیز قربان کر دی یا چھوڑ دی یا ترک کر دی۔ فِدَائی: جو خاص طور پر اپنے ملک کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دے، جانباز جمع فدائیون، لڑنے والے جو اپنی جانوں کو بے دھڑک خطروں میں ڈال دیتے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دینے والے فوجی، فدائین، منتخب حملہ آور دستے کے سپاہی، منتخب دستے جنہیں سخت شدید حملے کرنے کی تربیت دی گئی ہو (shock troops)۔ فِدَائِیة: فدائیت، اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ۔ مُفاداۃ: قربانی۔ فادٍ: نجات دہندہ۔ مُنجِی و مُنَجّی، مَفدِی: قربانی، اور ایثار کی چیز، کسی بادشاہ کے نام، وطن، عرش وغیرہ کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ بمعنی محترم محبوب۔

فذّ: ۱۔ فَذَّ ۔فَذًّا ہٗ: کو سختی سے دھتکارنا۔

۲۔ اَفَذَّتِ الشاۃُ: بکری کا ایک بچہ جننا۔ صفت: مُفِذٌّ و مُفِذَّۃٌ: اور اگر یہی عادت ہو تو اسے مِفذاد کہتے ہیں۔ تَفَذَّذَ و اسْتَفَذَّ بالامر: میں اکیلا ہو جانا، آزاد ہو جانا۔ الفَذّ (مص) جمع اَفْذَاذ و فُذُوذ: فرد، اکیلا، جوئے کا پہلا تیر۔ کلمۃ فَذَّۃٌ و فَاذَّۃٌ: شاذ، غیر معمولی، کم کم یا کبھی کبھی استعمال ہونے والا لفظ الافذّ: بے پر تیر۔ کہا جاتا ہے: اکلنا فَذَاذَی و فُذَاذَی و فُذَاذًا و فَذَاذًا: ہم نے جدا جدا ہو کر کھایا، ہم نے اکیلے اکیلے کھایا۔

۳۔ فَذْ فَذْ فَذْ فَذَۃً: اچانک کودنے کے لئے سمٹنا۔

○ فَذ جمع اَفْذَاذ و فُذُوذ: اکیلا، صرف، تن تنہا، ایک ہی، دوسرے کے بغیر، واحد، مفرد، یکتا، بے مثال، کمیاب، غیر معمولی، انوکھا، نرالا، خلاف دستور، کم کم یا کبھی (واقع ہونے والا)۔ اَفْذَاذ: غیر معمولی لوگ عجیب وغریب لوگ۔

فذل: فَذْلَكَ فَذْلَكَۃً الحسابَ: حساب سے فارغ ہونا۔ الفَذْلَکَۃ (مص): حساب وغیرہ کی تفصیل کا خلاصہ، میزان کل۔

○ فذلکۃ: مختصر خلاصہ، ملخص، تلخیص، طائرانہ نظر، خاکہ، مساحت، ماحصل، مختصر صورت۔

فرّ: ۱۔ فَرَّ ۔فَرًّا و فِرَارًا و مَفَرًّا و مَفِرًّا: بھاگ جانا، فرار ہو جانا، بچ نکلنا، بچ جانا۔ ـــــ الی الشیء: کی طرف جانا۔ کہا جاتا ہے: فَرَّ الامرُ جَذَعًا: معاملہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا۔ اَفَرَّہٗ: کو بھگا دینا، فرار کرا دینا۔ تَفَارَّ القوم: ایک دوسرے سے بھاگنا۔ الفَرّ (مص): بھاگنے والا (مذکر مؤنث مفرد اور جمع کے لئے)۔ فارّ کی جمع جیسے رَکْب راکب کی جمع ہے۔ الفُرَرَۃ و الفَرُورَۃ: تیز بھاگ جانے والا۔ الفَرَّار: بھاگ جانے میں تیز، پارہ ایک قسم کی معدنیات)۔ الفَرُور: بھاگنے میں تیز۔ الفَرُور و الفَرِیر و الفُرار: بھیڑ اور بکری کا بچہ۔ بعض نے بمعنی حملان نقل کیا ہے۔ ضرب المثل: نَزْوُ الفُرار استجهل الفُرارا: یہ اس لئے کہ جب بکری کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کودنے لگتا ہے اور جب دوسرا اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی طرح کودتا ہے۔ یہ ضرب المثل اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے جس کی صحبت سے بچا جاتا ہے۔ کَتِیبَۃٌ فُرَّی: شکست خوردہ، سواروں کا دستہ۔ المَفَرّ: بھاگنے کی جگہ۔ المِفَرّ من الخیل: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا، فرار کے لئے مضبوط گھوڑا۔

۲۔ فَرَّ ۔فَرًّا و فَرَارًا و فِرَارًا و فُرَارًا الدابۃَ: عمر دیکھنے کے لئے جانور کے دانت دیکھنا۔ ـــ عن الامر: کی کھود کرید کرنا۔ ـــ فَارَرْتُہٗ: میں نے اس کے حال کی اور اس نے میرے حال کی تفتیش کی۔ اَفَرَّ اِفْرَارًا ت الخیلُ او الإبلُ: گھوڑے یا اونٹ کے دودھ کے دانت گرنا اور دوسرے نکل آنا۔

۳۔ اَفَرَّ اِفْرَارًا رأسَہٗ بالسیف: کا سر تلوار سے پھاڑ ڈالنا۔

۴۔ تَفَرَّرَ بالشیء: ہنسنا۔ اِفْتَرَّ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ ـــ الرجُلُ: آہستہ آہستہ ہنسنا۔ کہا جاتا ہے: هو فُرُّ قومه و فُرَّتُهُم: وہ اپنی قوم کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ الفِرَّۃ: مسکراہٹ۔ الأَفَرّ: خوبصورت طریقے سے ہنسنے والا اور مسکرانے والا، حسین دانتوں والا۔ الفَرِیر: منہ۔

۵۔ اِفْتَرَّ الشیءَ: کو سونگھنا۔

۶۔ الفُرَّۃ و الأُفَرَّۃ و الأُفُرَّۃ: اختلاط، شدت۔ ـــ من الحَرّ و نحوہ: گرمی وغیرہ کی شدت اور اس کی ابتداء۔

۷۔ فَرْفَرَ فَرْفَرَۃً: تیز چلنا اور قدم قریب قریب رکھنا۔ ـــ البَعِیرُ: اونٹ کا بدن کو جھاڑنا۔ ـــ الشیءَ: کو جھاڑنا، ہلانا۔ فَرْفَرَ الطائِرُ: پرندے کا پر پھڑپھڑانا، ذبح کئے جاتے وقت پر مارنا (عام زبان میں)۔ ـــ الفرسُ اللجامَ: گھوڑے کا لگام کو سر سے علیحدہ کرنے کے لئے حرکت دینا۔ الفُرافِر: گھوڑا جو لگام کو اپنے منہ میں ہلاتا رہتا ہے، بھیڑ یا بکری یا جنگلی گائے کا بچہ، نوجوان، لڑکا۔ الفِرْفِر و الفُرْفُر: چڑیا ـــ و الفُرْفُور (ح): بھیڑ، بکری یا جنگلی گائے کا بچہ، نوجوان لڑکا۔ الفُرْفُورُ ذَنْبُہٗ مَغْفُور: نوجوان لڑکے کی غلطی قابل معافی ہے (عام لوگوں کی ضرب المثل)۔ الفَرْفُور (ح): پتنگا، تتلی، تیتری، پروانہ۔

۸۔ فَرْفَرَ فَرْفَرَۃً الرجُلُ فی کلامه: کلام میں خلط ملط اور زیادتی کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو توڑنا۔ الفَرْفَار: ڈانواڈول، بھڑ بھڑیا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ ڈالے۔ الفُرافِر: بے وقوف، باتونی۔

۹۔ فَرْفَرَ فَرْفَرَۃً الذئبُ الشاۃَ: بھیڑیے کا بکری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ـــ الرجُلَ: کی غیبت کرنا، کی آبرو پر حملہ کرنا۔ الفَرْفَار و الفِرْفَار و الفِرفِر و الفُرْفُر و الفَرافِر و الفُرْفُور: وہ شیر جو اپنے ہمسر کو پھاڑ دے۔

۱۰۔ فَرْفَرَ فَرْفَرَۃً فلانًا: پر چلانا۔

۱۱۔ الفَرْفَار (ن): ایک درخت آبنوس کی طرح سیاہ خوشبودار، جس سے پیالے بنائے جاتے ہیں، اور جس کی لکڑی آگ میں دیر تک جلتی رہتی ہے۔

○ فَرَّ ۔فَرًّا و فِرارًا و مَفَرًّا من: سے بھاگنا، فرار ہونا۔ فَرَّ هاربا: بھاگ جانا، فرار ہو جانا، نو دو گیارہ ہو جانا۔ اَفَرَّہٗ: کو بھگا دینا، فرار کرا دینا۔ اِفْتَرَّ عن: کو کھولنا یا جدا کرنا تا کہ کوئی چیز نظر آنے لگے، مسکراتے ہوئے دانت دکھانا، کو دکھانا، ظاہر کرنا۔ اِفْتَرَّ: ٹمٹمانا، چمکنا، اپنی جھلک دکھانا۔ فِرار و فُرار: عینُہٗ فِرارُہٗ و فُرارُہٗ: اس کی ظاہری شکل اس کے باطن کا ثبوت ہے۔ اسکے متعلق خیال قائم کرنے کیلئے، آپ کو صرف اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فَرّار: بھگوڑا، بھاگا ہوا، آبق، پارہ، سیماب۔ فُرَیْرَۃ: ایک کھیل جس میں حروف کی قیمتیں مقرر ہوتی ہیں (teetotum)۔ مَفَرّ: فرار۔ لا مَفَرَّ منه: ناگزیر، مجبوری کی بات، اٹل، ہو کر رہنے والا۔ فارّ جمع فارّون و فارَّۃ: بھگوڑا، بھاگ جانے والا۔

فرأ: ۱۔ الفَراء و الفَرَا جمع اَفْرَاء و فِراء (ح): جنگلی گدھا۔ کہا جاتا ہے: کلُّ الصید فی جوف الفرا: (بغیر ہمزہ) مثل ہے جسے وہ شخص کہتا ہے جس کی بہت سی حاجتیں ہوں اور ان میں سے بڑی حاجت پوری ہو جائے اور اس مقصد کے لئے بھی یہ مثل بولی جاتی ہے کہ وہ باقی حاجتوں کے پوری نہ ہونے کی پروا نہیں کرتا۔ امرٌ فِریءٌ: من گھڑت یا بڑا معاملہ۔

○ کُلُّ الصید فی جوف الفراء: ایسا شخص یا چیز جس میں سب اچھی باتیں اور فوائد جمع ہوں اور اس کے علاوہ ہر چیز کو غیر ضروری بنا دے۔ فُواك: (فرانسیسی لفظ) و فَرَاك جمع فُراكات: گاؤدم دامن والا کوٹ، پورا لباس، ڈِمیں۔ فَراوِلَۃ (اٹلی زبان کا لفظ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فراگولہ سے ماخوذ)، سٹرابری(strawberry)۔

فرب: الفربیون (ن): ایک قسم کا پودا جس کے تنے اور پتے آنکھوں کے لئے زہریلے اور خطرناک دودھیا رس کے حامل ہوتے ہیں۔

فرت: ا۔فَرَتَ ۔فُرُوتًا: بدکار ہونا۔

۲۔فَرُتَ ۔فُرُوتَۃً الماءُ: پانی کا خوشگوار ہونا، میٹھا ہونا۔ الفُرَات: بہت خوشگوار اور میٹھا پانی۔ (کہا جاتا ہے: ماءٌ فُرَاتٌ و مِیاہٌ فُرَات: میٹھا، خوشگوار پانی) ایک بڑے دریا کا نام جو خلیج عربی میں گرتا ہے۔ سمندر۔ الفُرَاتان: فرات اور دجلہ کے دریا۔

۳۔فَرِتَ ۔فَرَتًا: ضعیف العقل ہونا۔

۴۔فَرْتَکَ فرتکۃً: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا ۔۔۔ الشیءَ: کو ریزہ ریزہ کرنا ۔۔۔ العملَ: کام کو بگاڑنا۔ الفِرتیکۃ: (جسے شوکہ بھی کہا جاتا ہے: چھری کانٹا جس کے ذریعے کھایا جاتا ہے (اٹلی زبان کا لفظ)۔

۵۔فَرْتَنَ فرتنۃً: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ فَرْتَنی بلا لام: لونڈی۔ الفرتونۃ فی کلام الملاحین: طوفان باد اور سمندر میں موجوں کا تلاطم۔

○ فُرتیکۃ: بکسوا، بکلس۔

فرث: ا۔فَرَثَ ۔فَرْثًا تِ الحُبلٰی: حاملہ عورت کا جی متلانا ۔۔۔ فَرْثًا کبدَہٗ: کے جگر پر مارنا۔ فَرَثَ ۔فَرْثًا القومُ: منتشر ہوجانا۔ فَرَّثَ و افْرَثَ الکرِشَ: اوجھ کو چیر کر اس سے گوبر نکالنا ۔۔۔ الحُبُّ کبدَہٗ: محبت کا جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تَفَرَّثَ القومُ: متفرق ہونا، منتشر ہونا ۔۔۔ تِ الحُبْلٰی: حاملہ عورت کا جی متلانا۔ اِنْفَرَثَتِ الحُبْلٰی: حاملہ عورت کا جی متلانا۔ الفَرْث جمع فُرُوث: گوبر جب تک اوجھ میں رہے۔ امرأۃٌ فَرُثٌ: عورت جسے حمل کے شروع میں الٹیاں آئیں اور جی برا ہو۔ الفِرَاثۃ: اوجھ کا گوبر۔

۲۔فَرِثَ ۔فَرَثًا: شکم سیر ہونا۔

۳۔مکانٌ فَرِثٌ: غیر پہاڑی اور غیر میدانی جگہ۔

فرج: ا۔فَرَجَ ۔فَرْجًا و فَرَّجَ الشیءَ: کو کھولنا، کو کشادہ کرنا۔ اِنْفَرَجَ: کھلنا ۔۔۔ مابین الشیئین: (دو چیزوں کے درمیان کی جگہ کا) کشادہ ہونا، چوڑا ہونا۔ الفَرْج (مص) جمع فُرُوج: دو چیزوں کے درمیان کی کشادگی، کھلی جگہ، شگاف، درز، خلا، سرحد۔ ۔۔۔ من الثوب: کپڑے کی پھٹن ۔۔۔ من الانسان: شرمگاہ۔ (قُبُل و دُبُر)۔ فَرْجُ الوادی: وادی کا درمیانی حصہ ۔۔۔ الطریقِ: راستہ کا درمیانی حصہ۔ و الفُرُج: تانت سے علیحدہ کمان۔ الفُرُجَۃ جمع فُرُج: دو چیزوں کی درمیان کشادگی۔ الفَرُّوج جمع فَرارِیج: بچے کی قمیص، پیچھے سے پھٹی ہوئی قباء۔ الفَرِیج: کھلا ظاہر۔ قَوْسٌ فَرِیجٌ: تانت سے علیحدہ کمان۔ التِفْرِجۃ جمع تَفَارِج: دو انگلیوں یا کھمبوں کے درمیان کا فاصلہ۔ التَفَارِیج (واحد تِفْرَاج): لکڑی یا لوہے کے ستونوں کے درمیان کھلی جگہیں، جنگلے کی سلاخیں، انگلیوں کے درمیان کی جگہیں۔ تفاریج القباء و الدرابزین و اشبہہ: قباء، جنگلے کی سلاخوں وغیرہ کے سوراخ یا شگاف۔ المُفَرَّج: کنگھی، وہ شخص جس کی کہنی بغل سے دور ہو۔

۲۔فَرَجَ ۔فَرْجًا اللّٰہُ الغمَّ عنہ: اللہ کا کسی کے غم کو دور کرنا، زائل کرنا۔ فَرَّجَ اللّٰہُ الغمَّ عنہ: اللہ کا کسی کے غم کو دور اور زائل کرنا ۔۔۔ ہٗ علی شیءٍ غریب لم یَرَہٗ من قبل: کو کوئی عجیب چیز دکھانا جو اس نے پہلے نہ دیکھی ہو (سریانی الاصل لفظ)۔ افْرَجَ الغُبارُ: گرد و غبار کا چھٹ جانا ۔۔۔ القومُ عن المکان: لوگوں کا جگہ سے علیحدہ ہونا، ہٹ جانا۔ اور اسے چھوڑ جانا ۔۔۔ القومُ عن القتیل: مقتول کو چھوڑ جانا۔ تَفَرَّجَ الغمُّ: غم کا دور ہونا۔ اِنْفَرَجَ الغمُّ: غم کا دور ہونا۔ الرجلُ من ضیقۃٍ: تنگدستی سے چھٹکارا پانا۔ الفَرْج و الفُرُج و الفِرِج و الفُرْجۃ من الرجال: بھید نہ چھپانے والا۔ الفَرَج: کشادگی۔ الفُرْجۃ: سختی اور غم سے نجات ۔۔۔ عند المولّدین: سامان راحت، حظ راحت، وجہ مسرت، سامان تفریح۔ الفَرْجۃ و الفِرجۃ: بمعنی الفُرجۃ۔ التِفْرِجۃ و التِفْراجۃ جمع تَفَارِیج: کمزور، بزدل۔ المُفْرَج: مقتول جو جنگل میں پایا جائے اور قاتل معلوم نہ ہو، وہ شخص جس کے پاس نہ مال و دولت ہو، نہ اس کی کوئی اولاد یا رشتے دار ہوں۔

۳۔افْرَجَتِ الدجاجۃُ: مرغی کا بچوں والی ہونا۔ صفت مُفْرِج۔ الفَرُّوج و الفُرُّوج جمع فَرارِیج (واحد فَرُّوجۃ) (ح): (خاص طور پر) مرغی کے چوزے۔

۴۔الفِرجار: پرکار۔ کہا جاتا ہے خط فِرجاری: بمعنی گول دائرہ (فارسی لفظ)۔

۵۔فَرْجَنَ فَرْجَنَۃً الدابۃَ: جانور کو کھریرا کرنا۔ الفِرجَون: کھریرا (فارسی سے معرب)۔

○ فَرَجَ ۔فَرْجًا و فَرَّجَ ہٗ: کو کھولنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا، پھاڑنا، چیرنا، میں رخنہ یا شگاف ڈالنا، میں شگاف یا درز بنانا ۔۔۔ ہٗ: (غم وغیرہ) دور کرنا ۔۔۔ کو آرام دینا، تشفی دینا، کو تسلی دینا، کی دلجوئی کرنا ۔۔۔ عن: کسی شخص یا چیز کو تسکین نجات یا چھٹی دینا۔ فَرَّجَ ہٗ علی: کو کچھ دکھانا۔ افْرَجَ عن: (جگہ) ترک کر دینا، چھوڑ دینا؛ کسی کو آزاد کرنا، رہا کرنا، کسی شخص یا چیز کو چھوڑ دینا۔ تَفَرَّجَ: کھلنا، جدا ہونا، علیحدہ ہونا، پھٹنا ۔۔۔ کسی کو گذرنے دینے کے لئے بھیڑ ہٹانا ۔۔۔ (غم وغیرہ) دور ہونا۔ ۔۔۔ علی/فی: کو دیکھنے سے تسکین، تشفی، آرام، اطمینان حاصل کرنا، کے دیکھنے میں خوشی اور مسرت پانا ۔۔۔ علی: کسی شخص یا چیز کا لحاظ کرنا، کو دھیان میں لانا، پر غور کرنا، کو دیکھنا، کا معائنہ کرنا، کی طرف دیکھنا، کو نظر میں رکھنا۔ اِنْفَرَجَ: کھلنا، جدا ہونا، علیحدہ ہونا، پھٹنا، چوڑا یا وسیع ہونا، جمائی لینا ۔۔۔ عن: کھلنا تا کہ کوئی چیز نظر آئے، کو دکھانا، ظاہر کرنا ۔۔۔ (چہرے، بحران کا) نرم ہو جانا، ٹھنڈا پڑ جانا، سست پڑ جانا؛ (غم وغیرہ) کا دور ہو جانا۔ فَرْج جمع فُرُوج: شگاف، سوراخ، رخنہ، موکھا، درز، خلا، عورت کی اندام نہانی۔ فَرَج: غم و افسوس سے نجات، مصیبت سے رہائی، خوشی، شادمانی، تفریح، آرام، سکھ، چین، درد میں کمی، آرام استراحت، اطمینان، سکون، آسودگی، تسکین، آسائش، خوشی، مسرت۔ خوش آئند، کامیاب خاتمہ، انجام (کسی کہانی وغیرہ کا) خوش آئند آخری حصہ۔ فُرْجَۃ: چین، سکھ، خوشی، آرام کی حالت (خصوصاً مصیبت کے بعد) شگاف، سوراخ، درز، خلا، منظر، نظارہ، تماشا۔ فَرُّوج: (اسم جنس واحد فُرُّوجۃ) جمع فَرارِیج: چوزہ، چوزے، مرغی کے بچے۔ فَرارِجی: چوزے یا چوزوں کا گوشت بیچنے والا، مرغی والا، مرغی اور انڈے بیچنے والا، مرغی اور شکار کا گوشت بیچنے والا۔ مَفْرَج جمع مَفَارِج: تفریح، آرام، سکھ، چین، استراحت، سکون، آسودگی، (قصہ وغیرہ کا) خوش آئند آخری حصہ، خوش آئند خاتمہ، انجام۔ اِفْرَاج: آزاد کرنا، رہا کرنا ۔۔۔ عن: کی سبکدوشی، سے دستبرداری، فارغ خطی ۔۔۔ عَن: جائداد، اثاثہ کا گھیراؤ ہٹانا، راشن کی اشیاء خورد و نوش سے کنٹرول اٹھا لینا۔ مُتَفَرِّج جمع مُتَفَرِّجون: تماشائی، مبصر، دیکھنے والا۔ مُنْفَرِج: چوڑ چپٹ کھلا ہوا، ستایا ہوا، خوش، خوش و خرم، شاداں و فرحاں۔ فِرجار: پرکار (compass, dividers)۔ فِرجَون: کھریرا (currycomb)، برش (brush)۔

فرح: افَرِحَ ۔فَرَحًا بالشیءِ: سے یا پر خوش ہونا، اترانا۔ صفت فارح و فَرِح۔ فَرَّحَ ہٗ: کو خوش کرنا۔ افْرَحَ ہٗ: کو خوش کرنا۔ الفَرَح: خوشی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الفُرْحَة و الفَرْحَة: مسرت،خوشی،خوش خبری سنانے والے کا انعام عام لوگوں کے نزدیک: حلوان اور بشارت۔ الفرحان م فَرْحَى و فَرْحَانَة جمع فَرْحى و فَرَاحى و الفُرُوح جمع فُرُح: خوشی والا۔ المِفْرَاح: بہت زیادہ خوش (مذکر ومؤنث دونوں کے لئے مستعمل ہے)۔ المَفْرُوح: مسرور،جس پر خوشی کی جائے۔

۲۔ اَفْرَحَ هُ الدَّيْنُ: کوقرض کا گراں بار کرنا،غمگین کرنا۔کہا جاتا ہے: اَفْرَحَتْنِي الدنيا ثم اَفْرَحَتْنِي: دنیا نے مجھے خوشی دی پھرغم دیا۔آخری افرحتنی میں (ا) سلب کا معنی دیتا ہے۔یعنی خوشی چھین لی۔ المُفْرَح (مفع): فقیر محتاج۔

۳۔ المُفْرَح: گمنام نسب والا۔

○ فَرِحَ ـَـفَرَحًا ب/ل: پرخوش ہونا،خوش وخرم ہونا، مسرور ہونا،محظوظ ہونا، کے بارے میں یا پرخوش ہونا، شاداں وفرحاں اور خوش وخرم ہونا،خوش باش ہونا۔ فَرَّحَ ہٗ: کوخوش کرنا،باغ باغ کرنا،شگفتہ کرنا،کی دلداری کرنا،کادل بہلانا،کا جی خوش کرنا۔ فَرَح: خوشی،مسرت، شادمانی، جشن کامرانی، ترنگ، ہنسی، قہقہے، شگفتگی، شادی،تقریب شادی،جمع اَفْرَاح: جشن مسرت،جشن خوشی کی تقریب،شادی کی تقریب،دعوت،ضیافت۔ رَدْهَةُ الأَفْــــراح: ضیافت کا ہال،رقص گاہ (ball room)۔ فَـرْحَة: فرحت،خوشی،مسرت،شادمانی، طرب،سرورانبساط۔ فَـرِح و فَـرْحَان: خوش وخرم، شاداں و فرحاں، خوش، مسرور، شاد، خوش مزاج، محظوظ۔ مَفَارِح: خوشی منانے کی شاندار ضیافتیں،پُر مسرت وپُرانبساط واقعات۔ تـفـريـح: دل بہلاوا، کھیل،تفنن،تفریح،خوشی۔ فَـارِح: بـمعنی فَرِح وفـرحان۔ مُفْرِح: خوش کن،پرمسرت،پرانبساط، مسرت بخش، دلکش، خوش آئند، مسرت افزا، مسرورکن۔

فرخ: ا۔ فَرِخَ ـَـفَرَخًا إلى الارض: زمین سے چمٹ جانا۔ ــ الرجُلُ: کی گھبراہٹ دور ہوجانا۔ فَرَّخَتِ البيضةُ: انڈے کا بچہ سے جدا ہونا۔ ــ ت الطائرةُ: پرندے کا بچوں والا ہونا صفت: مُفْرِخ۔ ــ القومُ: کمزور ہونا،گھبرانا۔ ــ الشجرُ: درخت کا پھوٹنا۔ ــ الروعُ: خوف دور ہونا۔ ــ الامرُ: مشتبہ ہونے کے بعد کسی بات یا کام کا انجام ظاہر ہوجانا۔ اَفْــرَخَتِ البَيْضَةُ و الطائرُ: بمعنی فَرَّخت۔ ــ الروعُ: خوف دور ہونا۔کہا جاتا ہے: اَفْرِخْ رَوْعَكَ: یعنی اپنی گھبراہٹ دور کرواوراپنے دل کو مطمئن کرو۔ ــ الامرُ: اشتباہ کے بعد کسی بات یا کام کے انجام کا ظاہر ہونا۔کہا جاتا ہے: اَفْرَخَ القومُ بيضتَهُمْ: یعنی قوم نے اپنا بھید ظاہر کردیا۔ اِسْتَفْرَخَ الحَمامَ: کبوتری کو بچے دینے کے لئے لینا۔ الحَمَامُ: کبوتری کا بچہ والی ہونا۔ الفَرْخُ جمع فِرَاخ و اَفْراخ و اَفْرُخ وَ اَفْرِخة و فِرْخان و فُرُوخ: پرندے کا بچہ،چھوٹا پودہ یا جانور۔ ــ من الشجر: درخت کی جڑ میں نکلنے والے پودے، کمزور،ذلیل،دھتکارا ہوا آدمی۔ فَــرْخُ الـرأس: دماغ۔ الـفَـرْخَة جمع فِراخ (ح): پرندہ کا مادہ بچہ۔ المَفْرَخ جمع مَفَارِخ: بچے نکالنے کی جگہ۔

۲۔ الفَرخة: چوڑی نوک والا نیزہ۔

○ فَــرَّخ: پرندہ کا بچوں والا ہونا،(انڈوں سے) بچے کا نکلنا۔ ــ ہ: کی تدبیر کرنا،کا منصوبہ بنانا،اختراع کرنا، انڈوں سے بچے نکالنا،انڈے سینا۔ ــــ: درخت کا، پھوٹنا،شاخیں نکالنا،سوئے نکالنا،درخت سے شاخیں نکلنا،اُگنا،درخت کی نئی کونپلیں یا شاخیں نکلنا؛ پھیلنا، پاؤں جمانا۔ اَفْـرَخ: بمعنی فَرَّخَ۔ اَفْرَخ روعُه: کوڈر کا چھوڑ دینا،کا ڈر جاتا رہنا۔ فَرْخ جمع اَفْرَاخ و فُرُوخ و فِراخ و فِرخان: پرندے کا بچہ (پودوں یا درخت کی) کونپل،نئی شاخ،سوا۔ فَرخ وَرَق: کاغذ کا تختہ sheet of paper۔ فَـرْخة جمع فِـراخ: پرندہ کا مادہ بچہ،مرغی۔ فَرْخةً رومی: ایک قسم کا مرغ، فیل مرغ،ترکی مرغ۔ فِراخ: (فرخة کی جمع) مرغیاں، بطخیں وغیرہ (poultry)، پالتو پرندے،مرغے، مرغیاں۔ تَفْرِيخ: انڈے سینا،بچے نکالنا۔ آلة التفريخ: انڈے سینے کی مشین یا کمزور پیدائش کے بچے پالنے کی مشین (incubator)۔

فرد: ا۔ فَرَدَ ـُـفُرُودًا: اکیلا ہونا۔ ــ عن الشيء: سے علیحدہ ہونا۔ فَرِدَ ـَـ و فَرُدَ ـُـفُرُودًا: اکیلا ہونا۔ ــ بـالامر: کوتن تنہا کرنا، کے بارے میں تنہا مشغول ہونا۔ فَرَّدَ: فقیہ ہونا،لوگوں سے جدا ہونا۔ ــ برأيِهِ: رائے میں اکیلا یا منفرد ہونا۔ اَفْــرَدَ الشــيءَ: کوجدا کرنا۔ ــ ت الأنثى: ایک بچہ جننا صفت: مُفْرِد۔ ــ بالامر: کے بارے میں تنہا مشغول ہونا۔ ــ اليه رَسُولاً: کی طرف قاصد بھیجنا۔ تَـفَـرَّدَ بـالإمرِ: کو اکیلا کرنا،کو تنہائی میں کرنا،میں یکتا ہونا،بے نظیر ہونا۔ اِنْفَرَدَ: بغیر نظیر کے تنہا ہونا۔ ــ بالامر: تنہا کام کرنا۔ اِسْتَـفْـرَدَهٗ: کو اکیلا پانا،کوساتھیوں میں سے نکالنا،میں یا کے ساتھ بے مثل و بے نظیر ہونا یا میں بے مثل و بے نظیر ہونا،کو بے مثل ولا ثانی اخذ کرنا۔ ــ بالامر: میں اکیلا ہونا،میں بے مثل و بے نظیر ہونا،یکتا ہونا۔ الفارد (فا): الـفـارِدة جمع فَوَارِد: فَارِد کا مونث: گھر میں اکیلی رہ جانے والی بکری۔ نـاقةٌ فَـارِدَةٌ: چراگاہ میں تنہا چرنے والی اونٹنی۔ الـفَرْد جمع فِراد: ایک، طاق۔ ــــ جمع افراد و فُرادَى: بےنظیر۔ ــــ جمع فُرودَة و فُرُود: ریوالور revolver۔ ــــ جمع اَفْراد: داڑھی کی ایک جانب،ایک ٹکوے کی جوتی۔کہا جاتا ہے: هـذا شـيءٌ فَـرْدٌ: یہ منفرد چیز ہے۔ افرادُ الناس: بڑے لوگ۔ افراد النجوم و فُرُودها: الگ الگ طلوع ہونے والے ستارے۔ الفَرْد و الفَرِد: ایک۔کہا جاتا ہے: هذا سيفٌ فَرْدٌ و فَرِد: یہ بے مثال تلوار ہے۔ شـيءٌ فَرْدٌ و فَرِد و فَرُدٌ و فُرُدٌ: منفرد چیز۔ الـفَرْدَة جمع فَرْدات و اَفْراد و فَرَد: فَرْد کا مونث۔ ــ عند المكاری: (خچروالے کے نزدیک): ایک جانور کا نصف بوجھ۔ ــــ من البضاعة (ت): سامان کا اکھٹا بندھا ہوا حصہ۔ الفُرَدَة: اکیلا جانے والا۔ الـفَرْدَان مونث فَرْدَى: ایک۔کہا جاتا ہے: شـيءٌ فـردان: منفرد چیز۔ لقيتُـهُ فَـرْدَين: ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ (میں اس سے ملا تو وہ اور میں تھے ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں تھا)۔ جـاؤوا فُـرَادَ و فُـرادًا و فَـردَى و فِـرادًا و فُـرَادَى: وہ لوگ اکیلے اکیلے آئے۔واحد: فَـرَد و فَرِد و فَرِيد و فَرْدان۔ الفَرَّاد: موتیوں کا بیچنے والا۔ الفَرْدِيّ: انفرادیت کا حامی (individualist)۔ الـفَــرْدِيَّة: انفرادیت (individualism)۔ الـفُرُود من الاشياء: لاجواب،بے نظیر چیز۔ ناقةٌ فَرُودٌ: چراگاہ میں تنہا چرنے والی اونٹنی۔ الـفـريد جـمـع فَـرائِد: ایک،بے مثال،یکتا چھوٹا موتی جو سونے اور بڑے موتیوں کے بیچ میں ہو۔نفیس موتی، جوہر۔ الفَرِيدَة جمع فَرائِد: فرید کا مونث،ریڑھ کی ہڈی کا وہ مہرہ جو دُم کی ہڈی سے ملا ہو،نفیس جوہر۔ کہا جاتا ہے: اَتَـى بـالـفرائِد: وہ ایسے الفاظ لایا جو فصاحت و بلاغت اور عربي الاصل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ المُفْرَد (مفع): ایک۔اس کا مقابل جمع ہے: الارقـامُ المُفْرَدة (ع ح): وہ ہندسے جو اکیلے ہوں جیسے واحد،ثلاثہ،خمسہ وغیرہ۔ المُفْرَد من الذهب: موتی لگا کر جدا کیا ہوا سونا۔ المُفْرَد فا: کہا جاتا ہے: راكِبٌ مُفْرَدٌ: وہ سوار جس کے ساتھ اس کے اونٹ یا گھوڑے کے سوا اور کوئی نہ ہو۔

۲۔ الـفـارِد و الفَرَد (ح): بیل۔ الـمُفْرَد (ح): جنگلی بیل۔

۳۔ فَرْدَسَ فَرْدَسَةً ہٗ: کو پچھاڑنا،زمین پر پٹک دینا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۴۔ الفَرْدَسَة: گنجائش، چوڑائی۔ الفِرْدَوْسُ جمع فَرَادِیْس: باغ، جنت، مرغزار، سبزہ زار۔ فِردَوْسُ النعیم: ایک جنت کا نام (جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس وقت تک رکھا جب تک انہوں نے غلطی نہیں کی تھی)۔ المُفَرْدِس: کشادہ سینہ والا۔ صدرٌ مُفَردَسٌ: کشادہ سینہ۔ کَرْمٌ مُفَردَس: ٹٹی لگی ہوئی انگور کی بیل۔

فَرَدَ و فَرُدَ ـُ فُرُوْدًا: ایک ہونا، اکیلا ہونا، عدیم المثال و یکتا ہونا۔ فَرَدَ ـُ فُرُوْدًا عن: سے پیچھے ہٹنا، ہٹنا، الگ ہونا۔ فَرَدَ ـِ فَرَدًا ہ: کو پھیلانا، وسیع کرنا، بڑھانا، کھینچنا، تاننا، لمبا کرنا، بڑا کرنا۔ اَفْرَدَہ/ ہ: کو الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ ـــ ہ ل/ب: کے لئے کچھ انتخاب کرنا، کو کیلئے مقرر کرنا، کو کیلئے مخصوص کرنا، نذر کرنا، وقف کرنا۔ تفرّدَ: اکیلا ہونا۔ ـــ ب: کو اکیلے اکیلے کرنا، تنہا کرنا، کا تنہا مالک ہونا۔ ـــ: بے مثل و بے نظیر یا یکتا ہونا۔ اِنفردَ بمعنی تفرد نیز اِنفَرَدَ فی/ب: میں اکیلا و منفرد ہونا، میں لاثانی و بے نظیر ہونا۔ ـــ عن: سے ہٹنا، جدا ہونا، دور چلا جانا، سے علیحدہ ہونا۔ اِسْتَفْرَدَہ/ ہ: کو عدیم المثال، یکتا یا الگ تھلگ پانا۔ ـــ ہ: کو کیمیاوی طریقے سے جدا کرنا، الگ کرنا۔

الفَرد: ماہ رجب کا لقب، جمع فِرَاد: ایک، جوڑے میں سے ایک فَرْد جمع فُرُود و فُرُودَۃ: پستول، واحد، (گرامر)۔ فَرْدًا فَرْدًا: ایک ایک کرکے، علیحدہ علیحدہ، الگ الگ، ایک وقت میں ایک، ایک کے بعد دوسرا۔ فَرْدَۃ: ایک حصہ، ایک نصف، جوڑے میں سے ایک۔ فَرْدِی: ایک، تنہا، یکتا و تنہا، یگانہ، اکیلا، رہنے والا، ایک شخص کا، ایک شخص کے متعلق، ایک آدمی (مرکبات میں) اکیلے (صفت) ایک رن کی ضرب (ٹینس میں) singles، ذاتی، شخصی، انفرادی، آدمی، بشر، انسان، انفرادیت کا حامی، طاق (عدد)۔ فَرْدِیَۃ: انفرادی وجود، جداگانہ شخصیت، انفرادیت (individualism)۔ فَرِیْد: اکیلا، تنہا، یکتا، بے مثل، بے نظیر، انوکھا، لاثانی، لاجواب، بے بدل، بے مثال۔ فرید فی بابہ: اپنی قسم میں یکتا۔ فَرِیدَۃ: قیمتی موتی، گوہر، قیمتی پتھر، کاغذ کا دستہ چوبیس تختے کاغذ۔ فُرَادًا و فُرَادَی: بمعنی فردًا فردًا۔ تفریدی: مفصل، ایک ایک کرکے لکھا ہوا۔ اِنفِراد: تنہائی، خلوت گزینی، گوشہ نشینی، عزلت، گزینی، علیحدگی۔ علی انفراد: تنہا، تن تنہا، جدا، علیحدہ، الگ، تنہائی میں، ایک ایک کرکے، خفیہ، راز کے طور پر۔ الانفراد بالسُّلطة: مطلق العنان حکومت، حکومت استبداد، خودمختاری autocracy۔ مُفْرَد: ایک، اکیلا، تنہا، جدا کیا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، ایک لفظ پر مشتمل (کلام)، واحد جمع مُفْرَدات: لفظ، کلمہ، شبد، بول جمع (مفردات) الفاظ، اصطلاحات، نام، اسلوب بیان، محاورات (علمی میدان کے)، تفاصیل۔ مفرداتٌ خاصۃٌ: فنی اصلاحیں (technical terms)، کسی علم یا فن کی اصلاحات، علم الاصطلاح (terminology)، بمُفْرَدِہ: اکیلے، تنہائی میں۔ بالمُفْرَدات: بالتفصیل، تفصیل یا شرح وبسط سے۔ فِرْدَۃ (فُرْضَۃ) جمع فِرَدَ: ٹیکس، پول ٹیکس (Pool tax)

فرز: ۱۔ فَرَزَ ـِ فَرْزًا الشیءَ من غیرہ: کو دوسری چیز سے جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ فَرَّزَ تفرِزَۃً علیٰ برأیہ: (مجھ) پر قطعی حکم لگانا۔ فارَزَ شَرِیکَہُ: اپنے ساتھی کو الگ کرنا۔ اَفْرَزَ الشيءَ عن غیرہ: کو سے جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ ـــ فلانًا بشيء: کو میں خاص کرنا اور کسی کو شریک نہ کرنا۔ تفارَزَ الشریکان الشرکۃَ: شراکت کو دونوں شرکت داروں کا منسوخ کر دینا۔ اِفْتَرَزَ الامرَ: کا قطعی فیصلہ کرلینا۔ کہا جاتا ہے: اِفْتَرَزَ اَمرَہُ دونَ اھلِ بیتِہ: اس نے اپنے معاملہ میں اپنے گھروالوں سے مشورہ کئے بغیر فیصلہ کرلیا۔ الفَرْز (مص): دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ جگہ، دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین۔ الفِرز جمع اَفراز و فُرُوز: ٹیلہ کا راستہ، ساتھی کے لئے علیحدہ کیا ہوا حصہ۔ الفَرْزَۃ: سخت زمین میں شگاف۔ الفِرْزَۃ: الگ کی ہوئی چیز کا ایک ٹکڑا۔ الفُرْزَۃ: باری، فرصت، ٹیلہ کا راستہ۔ الفارِز فا: کلامٌ فارِزٌ: صاف اور واضح کلام۔ لسانٌ فارِزٌ: فیصلہ کن زبان۔ الفارِزَۃ: فارِز کا مونث: ریت میں بنا ہوا راستہ۔ الإفْرِیز من الحائط جمع اَفارِیز: دیوار کی کانس (فارسی لفظ)۔

۲۔ اَفْرَزَ الصیدُ الصائدَ: شکار کا شکاری کو قریب سے مارنے کا موقع دینا۔

۳۔ الفَرَزْدَق (واحد فَرَزْدَقَۃ، تصغیر فُرَیْزِق و فُرَیْزِد جمع فَرازِق: قیاسی طور پر فرازِد: وہ روٹی جو تنور میں گر پڑے، روٹی کے ٹکڑے، گوندھے ہوئے آٹے کے پیڑے۔

۴۔ تَفَرْزَعَ الکلأُ: گھاس کا گٹھا گٹھا جمع ہونا۔ الفُرْزُع: بنولہ۔ الفُرْزُعَۃ جمع فرازِع: فُرْزُع کا واحد: گھاس کا گٹھا۔

۵۔ فَرْزَلَ فَرْزَلَۃً ہ: کو قید کرنا۔ الفِرْزِل: قید، ہتھکڑی، [illegible]

۶۔ تَفَرْزَنَ البَیْذَق: شطرنج میں پیادہ کا ملکہ بن جانا۔ فِرْزَانٌ جمع فَرَازِین: شطرنج کی ملکہ۔

فَرَزَ ـِ فَرْزًا و اَفْرَزَ ہ: کو علیحدہ کرنا، جدا کرنا، الگ کرنا: احتراز کرنا، کی رطوبت نکالنا، کو نکالنا، خارج کرنا، کی ڈھیریاں بنانا، چھاننا، کی درجہ بندی کرنا، کو جانچنا۔ ـــ ہ/ ہ: کی چھان بین کرنا، کے کردار کی چھان بین کرنا۔ ـــ ہ: کو اکٹھا کرنا۔ ـــ ہ: کو منتخب کرنا، چننا۔ ـــ ہ من: کو سے شناخت کرنا، کے درمیان فرق کرنا، امتیاز کرنا، کے درمیان فرق دیکھنا۔ فَرْز: علیحدگی، جدائی، افراز، ریزش، رطوبت، پسینہ، بول و براز، فضلہ وغیرہ جو خارج ہو یا کیا جاتا ہے، الگ الگ ڈھیریاں بنانا، اکٹھا کرنا یا ہونا، جائزے کے لئے اجتماع، امتحان، بغور مشاہدہ انتخاب، چننا۔ فرز عسکری: عہدے پر فائز کرنے سے قبل لیا جانے والا امتحان (عسکری اصطلاح)۔ فَرَّازۃ: فرّازۃ آلیۃ: بیج علیحدہ کرنے والی مشین، بیج صاف کرنے کی مشین۔ مَفْرَزَۃ جمع مَفَارِز: گروہ، گروپ، فوج یا بیڑے کا وہ حصہ جو علیحدہ مہم پر بھیجا جائے، detachment، جتھا، جماعت، فرقہ، پارٹی مل کر کام کرنے والی جماعت، رسالہ، فوج کا دستہ، منڈلی۔ اِفْراز جمع افرازات: اخراج، ریزش، بول و براز، فضلہ، گوبر، رس عرق پسینہ، کھنگار، بلغم۔ قِسمۃ اِفراز: جنس کی صورت میں تقسیم۔ فارِزۃ: (و): کا نشان comma۔ مُفْرَزات: ریزشیں، رطوبات، پسینہ، بول و براز، فضلہ، رس، عرق۔ المُفْرَزات الداخلیۃ: اندرونی ریزشیں، رطوبتیں، افرازات۔

فرس: ۱۔ فَرَسَ ـِ فَرْسًا الاسدُ فریستَہُ: شیر کا اپنے شکار کا شکار کرنا، شکاری کی گردن توڑنا۔ ـــ الذبیحۃَ: ذبیحہ کی رگ کو کاٹ دینا یا اسکی گردن الگ کردینا۔ فَرَّسَ ہُ الشيءَ: کو چیر پھاڑ کے لئے کسی کو پیش کرنا۔ اَفْرَسَ الراعی: چرواہے کا ریوڑ کی حفاظت سے غافل ہونا اور بھیڑیے کا اسکی ایک بکری کو پکڑ کر لے جانا۔ ـــ فلانٌ الاسدَ حِمارَہُ: کسی کا اپنے گدھے کو شیر کے لئے چھوڑ کر اپنی جان بچانا تاکہ وہ اس کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالے۔ اِفْتَرَسَ الاسدُ فریستَہُ: شیر کا اپنے شکار کی گردن توڑ ڈالنا، کا شکار کرنا۔ الفَرْسۃ: فَرَس کا اسم مرۃ۔ ـــ و الفِرْسَۃ (طب): گردن میں نکلنے والا پھوڑا۔ ابو فِراس و الفَرّاس (ح): شیر، عام لوگ اسے ابو فارس کہتے ہیں۔ الفُرَانِس جمع فَرَانِسَۃ (ح): شیر، موٹی گردن والا۔ الفِرناس جمع فَرَانِسَۃ: شیر، بہت

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زیادہ، بہادر۔ الفَرِیس جمع فَرْسَی: مقتول۔ کہا جاتا ہے: ثورٌ فَرِیس و بقرۃٌ فَرِیس: بیل یا گائے جو کھائی جاچکی ہو۔ الفریسۃ: فَرِیس کا مؤنث: جسے شیر وغیرہ چیر پھاڑ کر ڈالے۔ المَفْرُوس: جس کی گردن میں پھوڑا نکلا ہوا ہو۔

۲۔فَرُسَ ـفِراسَۃً بالعین: نظر جمانا، کسی چیز کو وجدان سے سمجھ لینا۔ تفَرَّسَ فیہ: کو نظر جما کر دیکھنا۔۔ فیہ الخیرَ: میں بھلائی معلوم کرنا۔ الفَارِس فا: کہا جاتا ہے: ھو فارِسٌ بالأمر: وہ معاملہ کا جاننے والا ہے۔ الأفْرَس: زیادہ سمجھدار۔ الفَرَّاس: ذکی، تیز ذہن شخص۔

۳۔فَرَسَ ـفَرْسًا الشیءَ: کو جدا جدا کرنا۔ فَرَّسَ السطحَ: چھت پر سفید گارے کا لیپ کرنا۔ (سریانی لفظ، عام بول چال میں) افْـرَسَ عن بقیۃ مالٍ: مال لینا اور کچھ باقی چھوڑ دینا۔ الفُرس: سفید گارا، جسے چھت پر لیپ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے (عام زبان میں)۔

۴۔فَرُسَ ـفَراسَۃً و فُرُوسَۃً و فُرُوسِیَۃً: شہسواری میں ماہر ہونا۔ تفَرَّسَ الرجلُ: اپنے آپ کو شہسوار ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لیس بفارس و لکنہ یتَفَرَّسُ: وہ شہسوار نہیں مگر اپنے آپ کو شہسوار ظاہر کرتا ہے یا شہسوار بنتا ہے۔ الفارس فا جمع فُرسان و فَوَارِس: گھوڑا سوار، گھڑسوار، گھوڑے والا۔ الفَرَس (ح): گھوڑا، گھوڑی اسے حِصَان بھی کہتے ہیں۔ مادہ کو حِجر بھی کہتے ہیں۔ بسا اوقات مؤنث کیلئے فَرَسۃ بھی کہا جاتا ہے فَرس کی جمع غیر لفظ سے خَیل آتی ہے اور اس لفظ سے آئے تو کہا جاتا ہے۔ ثلاثۃ افراس: تین گھوڑے اور ثلاثُ افراس: تین گھوڑیاں۔ جمع کثرت فُرُوس ہے۔ ھما کَفَرَسَی دھان: مثل ہے ان دو شخصوں کیلئے جو کسی ایک مقصد کے لئے مسابقت کریں اور کوشش و فضل میں مساوی درجہ رکھتے ہوں۔ (فلک): ایک ستارہ کا نام۔ فَرَسُ البحر (ح): دریائی گھوڑا، بڑے جسم اور سر کا، ٹانگیں اور دم چھوٹی، ہر ٹانگ میں چار کھر ہوتے ہیں۔ فَرَسَ النھر اور جاموس البحر بھی کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے hippopotamus کہا جاتا ہے۔ الفُرَیْس: مذکر کیلئے اسم تصغیر بمعنی چھوٹا سا گھوڑا اور مونث کیلئے الفُرَیْسَۃ بمعنی چھوٹی سی گھوڑی۔ الأفْرَس: زیادہ سمجھدار۔

۵۔الفِرس (ن): ایک قسم کا پودا، کرم کلا Kaleplant۔ الفُرس: مملکت فارس کے باشندے۔ فارِس: مملکت فارس کے باشندے، مملکت فارس۔ الفارِسی: مملکت فارس کا یا سے متعلق۔ فُرس کا واحد۔ الفارِسیّۃ: فارسی زبان۔ الفِرناس جمع فَرَانِسَۃ: دیہاتیوں کا چودہری۔ الفَرِیس: رسی کے سرے پر باندھا جانے والا حلقہ۔ الفَرِّیسی: (فَرِّیسین کا واحد)، فریسی Pharisee (ایک یہودی فرقہ کا رکن، تنگ نظر، ظاہر پرست، منافق اور ریاکار۔ الفَرِّیسیون: یہودیوں کا ایک فرقہ، مکابین کے عہد میں شریعت اور ایمان کی صفائی کیلئے منظم ہوا لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ روح کے بغیر لفظ سے وابستہ ہو گیا۔ چنانچہ جناب مسیح علیہ السلام نے ان کی ریاکاری اور غرور پر سخت ملامت کی جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ علیہ السلام کے مخالفین کی صف اول میں تھے۔ رجلٌ فَرِّیسی: ریاکار (کے معنی میں)۔

۶۔فَرْسَخَ فَرْسَخَۃً الشیءُ: کشادہ ہونا۔ الفَرْسَخ جمع فَرَاسِخ: مدتِ طویل، شگاف۔ فَرْسَخُ الطریق: تین ہاشمی میل۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بارہ ہزار گز ہے جو آٹھ کلومیٹر کے مساوی ہے۔ (فارسی لفظ) سراویلُ مُفَرْسَخَۃٌ: کشادہ شلوار۔

۷۔فَرْسَخَ فَرْسَخَۃً البردُ او المرضُ: سردی یا بیماری کی شدت کا کم ہونا۔ تفرسَخ و افْرَنْسَخَ البردُ او المرضُ: سردی یا بیماری کی شدت کا کم ہونا۔۔۔ الھمُّ عنہ: کے غم کا دور ہو جانا، زائل ہو جانا۔ الفَرْسَخ جمع فَرَاسِخ: راحت، سکون، ہمیشہ رہنے والی اور وافر چیز۔

۸۔الفِرْسِن جمع فَرَاسِن: اونٹ کے کھر کا کنارہ (مؤنث)۔ رجلٌ مُفَرْسَنُ الوجہ: پر گوشت چہرے والا مرد۔

○ فَرَسَ ـفَرْسًا ہ: کسی درندہ کا اپنے شکار کو مارنا، چیرنا، پھاڑنا۔ تفَرَّسَ ہ/ ہ/فی: کو تجسسانہ یا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کو حیرانی یا شک کی نظر سے دیکھنا، کو جانچنا، کی جانچ پڑتال کرنا، کی طرف نظر جما کر دیکھنا۔ ۔۔ ہ فی: میں کوئی خوبی، گن، کمال وغیرہ پہچاننا، تسلیم کرنا، پیش نظر رکھنا، معلوم کرنا یا اس کا سراغ یا کھوج لگانا۔ افترسَ: بمعنی فَرَسَ نیز ۔ ھا: (عورت) کی عصمت دری کرنا، آبرو ریزی کرنا، کو زبردستی لیجانا۔ فَرَس: مذکر و مونث جمع افراس: گھوڑا، گھوڑی، (شطرنج میں) گھوڑے کا مہرہ۔ فرسُ البحر: دریائی گھوڑا۔ فرسُ الرِھان: گھڑ دوڑ کا گھوڑا race horse۔ الفرسُ الاعظمُ: شمالی مجمع النجوم جو لڑتے گھوڑے کی شکل کا ہے (Pegasus) (فلکیات)۔

فَراسَۃ: شہسواری، گھوڑے کی سواری۔ فِراسَۃ: ژرف نگاہی، بصیرت، تیز نگاہی، تیز فہمی، ذکاوت، نکتہ رسی، فہم فراست، شعور، تمیز، امتیاز، تفریق، گہرا یا دقیق مشاہدہ، دھیان، باریک بینی، (کردار کی خصوصیات کیلئے) تیز نظر تخت نگاہ، بشری طبیعت سے وجدانی واقفیت یا اس کا وجدانی علم۔ عِلْمُ الفِراسۃ: قیافہ شناسی، علم قیافہ (physiognomy)۔ فِراسۃ الید: دست شناسی palmistry۔ فَرِیسۃ جمع فَرائِس: (درندے کا) شکار۔ فُرُوسَۃ: شہسواری، گھوڑے کی سواری، بانک پن، دلاوری، بہادری، زیر دستوں کی حمایت، منصب داری۔ فارِس جمع فُرسان و فَوارِس: شہسوار، سوار، نائٹ (knight)، ہیرو (hero) جمع: رسالہ (cavalry) (گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر لڑنے والے فوجی)۔ لستُ من فُرسان ذلک المیدان: میں اس میدان سے ناآشنا ہوں، میں اس میدان کا اہل نہیں۔ فارِسَۃ جمع فارِسات: شہسوار عورت، سوار لڑاکا عورت، جنگجو عورت، دیوپیکر عورت، تنومند عورت (amazon)۔ مُفتَرِس: تخت لالچی، حریص، بھوک سے بے حال (جانور)۔ حیوانٌ مفترس: غارت گر درندہ۔ فَرْسَخ جمع فَراسِخ: لمبائی کا پیمانہ، فرسنگ، سوا تین میل کا فاصلہ۔ فَرْسوفِیا: وارسا (پولینڈ کا دار الحکومت)۔

فرش: افْرَشَ ـفَرْشًا و فِراشًا الشیءَ: کو بچھانا۔ ۔ فلانًا امرًا: کیلئے کوئی بات آسان کرنا، مولدین کی ایک مثال ہے: فرشتُہُ دُخلۃَ امری او فرشتُ لہ دُخلۃَ امری: میں نے اسے معاملہ کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔۔۔ الامرَ: کو پھیلانا، کی نشر و اشاعت کرنا۔۔۔ فَرَشًا النباتُ: نباتات کا زمین پر پھیل جانا۔ فَرَشَ الطائرُ: پرندے کا پُھڑ پُھڑانا مگر کسی چیز پر نہ گرنا۔۔۔ فلانًا بساطًا: کے لئے بچھونا بچھانا۔ ۔ ـک الدارَ: گھر میں فرش لگانا، اینٹ اور پتھر بچھانا۔ ۔ الزرعُ: کھیتی کا پھیلنا اور پتوں کا بڑھنا۔ افْرَشَ ہُ بساطًا: کے لئے بچھونا بچھانا۔۔۔ الشاۃَ للذبح: بکری کو ذبح کرنے کے لئے زمین پر لٹانا۔۔ الشجرُ: درخت کی ٹہنیوں کا لمبا ہونا۔ الرجلُ: آدمی کا بچھونے والا ہونا۔۔۔ المکانُ: جگہ کا زیادہ پروانوں والا ہونا۔ تفَرَّشَ الطائرُ: پرندے کا پُھڑ پُھڑانا اور پر پھیلانا مگر کسی چیز پر نہ گرنا۔ افْتَرَشَ الشیءَ: پھیلنا۔ ذراعیہ: زمین پر بازو پھیلانا۔ الرجلَ: کو پچھاڑنا۔ الشیءَ: کو روندنا۔ الطریقَ: راستہ پر چلنا۔ اثرَ فلانٍ: کا پیچھا کرنا۔ عِرضَہُ: کی بے عزتی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا ـ المالَ: مال غصب کرنا ـ الفَرْش (مص): چٹائی، قالین، گدا، فرنیچر، بکثرت نباتات والی جگہ، کشادہ زمین، کھیتی جب کہ اس کے تین پتے نکل آئیں، چھوٹے چھوٹے درخت، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں (جو جلانے کے کام آتی ہیں)، چھوٹے چھوٹے اونٹ (اور اس معنی کے لحاظ سے اس کا واحد نہیں آتا)، گائیں بکریاں جو صرف ذبح کئے جانے کے قابل ہوں۔
الـفَرْشة: فَرَش کا اسم مرة، بچھونا (عام زبان میں)۔
الفِرْشَة: بچھانے کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے ھو حَسَنُ الفِرشَة: یعنی وہ اچھی حالت میں بچھا ہوا ہے ـ الفِرَاش جمع افْرِشة وُ فُرُش: بچھونا، پرندہ کا گھونسلا۔
الفَرَاش: زمین پر خشک شدہ کیچڑ ـ من الرجَال: بہت ہلکا پھلکا مرد ـ الفَرَاشة جمع فَرَاش (ح): پروانہ، اوچھا شخص۔ کہا جاتا ہے ما ھو اِلاَّ فَرَاشة: وہ صرف اوچھی طبیعت کا آدمی ہے اور یہ حقارت کے وقت کی ضرب المثل ہے ـ الفَرَّاش: بہت بچھانے والا ـ الفَرِيش من النبات جمع فَرَائِش: زمین پر پھیلی ہوئی بیل ـ المِفْرَش: بچھونا ـ المِفْرَشة جمع مَفَارِش: کجاوہ پر بچھانے کا چھوٹا سا بچھونا۔
المُفَرَّش (مفع): کہا جاتا ہے جَملٌ مُفَرَّشٌ: بغیر کوہان کا اونٹ۔

۲ فَرَش ـفَرْشًا و فِراشًا الرجُلُ: جھوٹ بولنا۔ افرش الرجُلَ: کی غیبت کرنا اور اس کے بارے میں بری باتیں کرنا ـ الفَرْش: جھوٹ۔

۳ فَرَشَ ـفَرْشًا و فِراشًا عنهُ: کا ارادہ کرنا اور اس کے لئے تیار ہونا۔

۴ افْرَش عنهُ: سے علیحدہ ہونا، دور ہونا ـ عنهُ الموتُ: سے موت کا ٹل جانا۔

۵ فَرَّش السيفَ: تلوار کی دھار کو پتلا کرنا ـ افترشتِ الشجَّةُ الدِمَاغَ: زخم کے نشان کا دماغ کو توڑ ڈالنا۔
الـفَرَاش: لگام باندھنے کے دو لوہے کے ٹکڑے۔
الفَرَاشَة: پتلی ہڈی یا پتلا لوہا، کندھوں کا اٹھا ہوا حصہ۔ فَرَاشُ الدماغ کا واحد: بمعنی کھوپڑی تک پہنچنے والی پتلی پتلی ہڈیاں ـ من القُفل: تالے کی جھڑ۔

۶ الفَرَاش (ع ا): زبان کے نیچے کی دو سبز رگیں ـ من النبيذ: شراب کے بلبلے ـ فَرَاشُ الطاحون عند الطحنة: پن چکی کا پہیہ جسے پانی چلاتا ہے ـ فراشُ السفينة: نالی کی شکل کا ایک آلہ جو کشتی یا جہاز کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے، جہاز راں اسے دَقَّاش کہتے ہیں۔
الفِرَاش جمع أفْرِشة و فُرُش: منہ کی جڑ میں زبان کی جگہ ـ الفَرَاشَة: تھوڑا سا پانی ـ المُفَرْشَة: جسے

الفُرْشاية بھی کہتے ہیں جمع فَرَاش: برش (brush) (دانت صاف کرنے یا اونی کپڑے وغیرہ صاف کرنے کا) (فرانسیسی لفظ بُرُوس سے معرب ہے)۔
الـفَرِيش جمع فَرَائِش: گھوڑی جس نے حال میں بچہ دیا ہو۔

۷ فَرْشَحَ فرشَحَةً و فَرْشَحَى: ٹانگیں کشادہ کرنا، ڈھیلے طریقہ سے رانوں کو زمین سے ملا کر بیٹھنا، ٹانگیں ملا کر کودنا ـ الفِرشاح: پھیلا ہوا، کھر، بہت موٹی عورت، بے بارش کا بادل۔

۸ فَرْشَخَ فَرْشَخَةً الرجُلُ: ٹانگیں پھیلانا (یہ فَرْشَحَ کی تحریف بھی ہوسکتی ہے) ـ الـفَرْشخة: وسعت، کشادگی، گنجائش۔

فَرَشَ ـفَرْشًا و فِراشًا ہ: کو پھیلانا، بچھانا ـ ہ ب: (زمین، فرش، راستہ، کمرہ وغیرہ) کو سے ڈھکنا، پر سے فرش باندھنا ـ فَرَّش ہ ب: (فرش وغیرہ کو سے ڈھکنا) ـ (ہ): کو فرنیچر (کرسی میز وغیرہ) سے آراستہ کرنا، میں فرنیچر لگانا؛ میں ٹائل لگانا، میں فرش بندی کرنا ـ افتَرَش ہ: کو پھیلانا، بچھانا؛ پر لیٹنا، پر پھیلنا، دراز ہونا، پر پاؤں پسار کر بیٹھنا یا لیٹنا، پر ٹانگیں پھیلا کر گرنا ـ ھا: (عورت) کے ساتھ ہمبستر ہونا ـ افترش لِسانَهُ: زبان کو بے لگام کرنا ـ فَرْش جمع فُرُوش: فرنیچر، گھریلو اثاث، فرش، چٹائی، کمبل، قالین، غالیچہ، بستر کے طور پر زمین پر بچھائی ہوئی کوئی چیز، بنیاد، نیو۔
فَرْشَہ: پلنگ، گدا ـ فَرَاش: (اسم جمع واحد فَرَاشَة) پروانے، پتنگے، تتلیاں، تیتریاں ـ فَراشة: پروانہ، پتنگہ، تتلی، تیتری، تلون مزاج شخص ـ فِرَاش جمع فُرُش و افْرِشة: تکیہ، کمبل، غلاف، چادر، گدا، پلنگ ـ فَرَّاش: قالین، غالیچے بچھانے والا، نوکر، خادم، حاضر باش، گھریلو نوکر، خاص خدمت گار، بیرا، چپڑاسی، قاصد یا سودا سلف لانے والا لڑکا ـ مِفْرَش جمع مَفَارِش: میز پوش، پلنگ پوش، چادر، بچھونا۔
مِفْرَشَة جمع مَفَارِش: زین کا کمبل ـ مَفْرُوش ب: سے ڈھکا یا ڈھانپا ہوا ـ مہیا شدہ، آراستہ ـ مَفْرُوشات: فرنیچر، اثاث البیت ـ فَرَّش ہ: کو برش کرنا ـ فُرْشَة جمع فُرَش: برش، رنگ روغن کرنے والا برش ـ فرشةُ البودرہ: غازہ ملنے کی گدی powder puff ـ فرشةُ اَسنان: دانت صاف کرنے کا برش (tooth brush) ـ فَرْشَحَ فَرْشَحَةً و فَرْشَخَ فَرْشَخَةً: ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہونا یا بیٹھنا ـ فُرَيْشِنَة: بال پن (hairpin)۔

marfat.com
فرص: فَرَصَ فَرْصًا الشيءَ: کاٹنا، کھال چیرنا، پھاڑنا ـ فَرَّص اَسْفَلَ النعلِ: جوتے پر لوہے کی نوک سے نقش کرنا ـ الفُرْصَة و الفَرْصَة و الفِرصة: اون یا روئی کا ٹکڑا ـ المِفْرَص جمع مَفَارِص و المِفراص جمع مَفَارِيص: لوہا یا چاندی کاٹنے کی قینچی۔

۲ فَرَصَ ـفَرْصًا الفُرْصَة: فرصت پانا ـ فَارَص مُفَارَصَةً ہُ في الشيء: میں کے ساتھ باری باری آنا۔ أفْرَصَ الفُرصَةَ: فرصت پانا ـ تہُ الفُرْصَةُ: کو فرصت ملنا ـ تَفَرَّصَ الفُرْصَةَ: فرصت پانا ـ تفارص القومُ البئرَ: قوم کا کنویں پر باری باری آنا ـ افتَرَصَ الفرصَةَ: فرصت کو غنیمت جاننا۔ فرصت یا موقع پانا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا يُفْتَرَصُ اِحسانُهُ و برُّهُ: یعنی اس کے احسان کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں۔
الفُرْصَة جمع فُرَص: باری، مناسب وقت، بہترین موقع۔ (کہا جاتا ہے انتھز الفرصةَ: اس نے موقع کو غنیمت جانا۔ کہا جاتا ہے جاءت فُرصتُك من السقي: تمہاری پانی کی باری آگئی ـ في المدارس: سکول کی چھٹی تعطیل۔ اسے العطلة المدرسية بھی کہتے ہیں ـ الفَرِيص (واحد فريصة): اپنی باری پر کام کرنے والا۔ آپ کہتے ہیں ھو فَرِيصي: وہ میرے ساتھ باری پر کام کرنے والا ہے۔
الفَرِيْصَة جمع فَرِيص و فرائص: باری۔

۳ فَرَصَ ـفَرْصًا الرجُلَ: کی رگ گلو پر مارنا، کے شانہ کے گوشت پر مارنا ـ فُرِصَ فَرْصًا و فَرَصًا: کے شانہ کے گوشت میں درد ہونا ـ الفَرِيص واحد فَرِيصة: گلے کی رگیں ـ الفَرِيصَة جمع فَرِيص و فرائِص: پہلو اور مونڈھے یا پستان اور مونڈھے کے درمیان کا گوشت جو خوف کے وقت اچھلنے لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ارتعدت فَرِيصَتُهُ: وہ بہت گھبرا گیا ـ ھو ضخمُ الفَرِيصَة: وہ سخت نڈر ہے۔

۴ الفِرصاد: سرخ رنگ (ن): توت یا توت کا درخت ـ و الفِرْصِد و الفِرصِيد: انگور کے بیج۔

فَرَّصَ: چھٹیاں کرنا یا منانا ـ فُرْصَةٌ: مناسب وقت یا موقع، موقعہ، نیک ساعت، چھٹیاں، تعطیل ـ فُرصةً من الزَمَن: مختصر عرصہ کے لئے ـ انتھز الفُرصةَ: موقعہ سے فوراً فائدہ اٹھانا، موقعہ کو غنیمت جاننا۔
فَرِيصَة جمع فَرائِص: مونڈھے کے نیچے کا گوشت یا پٹھا ـ ارتعدت فريصته او فرائِصُهُ: سخت خوف یا جوش نے اس پر قبضہ کرلیا ـ مُفَرِّص: چھٹیاں منانے والا، سیاح، سیاحت کرنے والا ـ فِرصاد: شہتوت یا شہتوت کا درخت (mulberry)۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فرض: ا۔ فَرَضَ ـفَرْضاً الخشبة و فيها: لکڑی کاٹنا، چھیدنا۔ فَرَّضَ الخشبةَ لکڑی میں سوراخ کرنا۔ اِفْتَرَضَ القومَ قوم کا ختم ہونا۔ الفَرض (مص) من القوس جمع فِراض: چلہ کمان کی جگہ۔ الفُرْض: کٹائی۔ الفُرْضة جمع فُرَض و فِرَاض: لکڑی جس میں دروازہ کی چول ہو۔ ـــ من النهر: دریا کا دہانہ۔ ـ من البحر: سمندری بندرگاہ۔ ـ من القوس: کمان کا سرا جو تانت لگانے کے لئے کاٹا جاتا ہے۔ ـــ من الدواة: دوات میں سیاہی کی جگہ۔ فُرْضَةُ الجبل: پہاڑ کے وسط اور کنارے کے پست زمین۔ الفِرَاض: دریا کا دہانہ۔ المِفْرَاض و المِفْرَض: کاٹنے کا اوزار۔ المَفْرُوض: کاٹا ہوا۔

۲۔ فَرَضَ ـفَرْضًا الامرَ: کو فرض کرنا، معین کرنا۔ ـ له: کے لئے وقت مقرر کرنا۔ ـــ لفلان كذا: کیلئے کسی چیز کو فرض کرنا۔ ـــ له كذا في الديوان: کھاتہ میں کے متعلق معلومات لکھنا اور اس کے روزینہ کا اندراج کرنا۔ ـــ اللّٰهُ الاحكام على عباده: اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کیلئے احکام واجب ٹھہرانا۔ ـ فُرُوضًا و فَرَاضَةً تِ البقرةُ: گائے کا عمر رسیدہ ہونا صفت: فَارِض۔ (عمر رسیدہ گائے جو زکوۃ میں اس کے مالک سے نہیں لی جاتی)۔ فَرُضَ ـفَرَاضَةً: علم فرائض کا جاننے والا اور ماہر ہونا۔ ـــ فُرُوضًا و فَرَاضَةً تِ البقرةُ: گائے کا عمر رسیدہ ہونا۔ صفت: فَارِض فَرَّضَ الامرَ: کو واجب کرنا۔ اَفْرَضَ لفلان كذا: کو کیلئے فرض قرار دینا۔ ـ تِ الماشيةُ: گائے بیل وغیرہ کا نصاب کو پہنچنا، زکوۃ کے قابل ہونا۔ ـــ فلاناً شيئاً: کو کچھ دینا۔ اِفْتَرَضَ اللّٰهُ الاحكامَ على عباده: اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احکام واجب ٹھہرانا۔ ـــ الجندُ: فوج کا تنخواہ لینا۔ الفَرْض جمع فُرُوض و فِراض: اللہ کا بندوں پر مقرر کیا ہوا قانون۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مقرر کیا ہوا فرض۔ درج شدہ عطیہ، فوج کی تنخواہ، تنخواہ دار فوج، اپنے اوپر لازم کیا ہوا کام، طالب علم کو دیا ہوا گھر پر کرنیکا کام (home work)۔ كتاب الفرض: اوقات مقررہ پر ادا کی جانے والی مفروضہ نمازوں کی کتاب۔ الفارِض جمع فُرَّض م فَارِضة جمع فَارِضَات و فَوَارِض: قدیم۔ ـــ والفَرِيض و الفَرَضِيّ و الفَرَّاض: علم فرائض کا جاننے والا۔ الفَرِيضَة جمع فَرَائِض: فرض، زکوۃ، مفروضہ حصہ۔ علمُ الفرائض: وہ علم جس سے وارثوں کے بم کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اصحابُ الفَرائِض: وہ وارثین جن کے حصے مقرر کردیے گئے ہیں۔ فلانٌ اَفْرَضُ الناس: فلاں شخص علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ المَفْرُوض (مفع): اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر واجب کیا ہوا حکم، محدود۔

۳۔ فَرَضَ ـفَرْضاً الامرَ: کا اندازہ کرنا، خیال کرنا اور عقل سے سمجھنا (کو فرض کرنا) (suppose)۔ الفَرْض (ع ح): مفروضہ۔ الفَرْضِيَّة و المَفْرُوض (ع ح): مفروضہ۔ الافتراض عند المنطقيين: مفروضہ۔

۴۔ الفِراض: کپڑا۔ الفَارِض جمع فُرَّض م فَارِضة جمع فَارِضات و فَوَارِض: موٹا، ضخیم۔

۵ فَرَضَ ـفَرْضًا: قرار دینا، فیصلہ کرنا۔ ـــ ہ: کا حکم جاری کرنا، کا فیصلہ سنانا، کی ڈگری دینا، کا حکم دینا۔ ـــ ل ہ: کے لئے کچھ (روپے وغیرہ) مقرر کرنا، کو کچھ (روپے وغیرہ) دینا، کے لئے کچھ مقرر کرنا، متعین کرنا۔ ـــ على ہ: پر کچھ عائد کرنا، تھوپنا، کے گلے کچھ منڈھنا، کو کی ہدایت کرنا، کو کا حکم دینا، کو پر لازم، واجب، فرض یا لازمی کرنا۔ ـــ الحصارَ على: پر ناکہ بندی عائد کرنا۔ ـــ ہ/ان: فرض کرنا کوئی بات یا کہ......کو قبل از وقت فرض کر لینا، پہلے ہی سمجھ بیٹھنا کہ ...... ـــ ہ: کو لازمی شرط قرار دینا۔ ـــ ارادته عليه: پر اپنی مرضی ٹھونسنا۔ فَرَّضَ ہ: میں دندانہ ڈالنا، پر نشان لگانا، میں چیرے دینا، کو چیرنا۔ اِفْتَرَضَ على ہ: پر کچھ عائد کرنا، کو کی ہدایت کرنا، کو کا حکم دینا، پر کچھ لازمی، لازم، واجب یا فرض کرنا، پر کچھ تھوپنا، کے گلے کچھ منڈھنا۔ ـــ ہ: کا حکم جاری کرنا، کا فیصلہ سنانا، کا حکم دینا۔ ـــ ہ/ان: کو فرض کرنا یا فرض کرنا کہ ...... فَرْض جمع فُرُوض: دندانہ، دانتا، چیرا، فرض، واجب، فریضہ، نصیحت وعظ، حکم، فرمان، فیصلہ، ڈگری، مذہبی فریضہ، قانونی حصہ، فرض کرنا، مفروضہ (منطق میں): مقدمہ (مقدمہ صغری مقدمہ کبری)، قیاس، مفروضہ نظریہ، اصول موضوعہ، دعوی، بے دلیل دعوی۔ فروضُ التحية: سلام کرنے کی مقررہ شکلیں۔ فَرْضُ عين: انفرادی فریضہ۔ فَرْض كفاية: اجتماعی فریضہ۔ على فرض أن: فرض کیا کہ۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ بالفرض۔ على فرض: بطور مقدمہ پیش کرتے ہوئے ...... تمہید کے طور پر کہتے ہوئے۔ فَرضِيّ: فرضی، مشروط، مفروضہ، قیاسی، خیالی، اٹکل پچو، بلا ثبوت فرض کردہ۔ فَرْضِيَّة: قیاس، مفروضہ نظریہ، مفروضہ۔ فُرْضَة جمع فُرَض: دندانہ، دانتا، چیرا، شگاف، درز، خلال، دراڑ، دراز، روزن، سمندری بندرگاہ، دریائی بندرگاہ، چھوٹا بندرگاہ کا شہر small port town۔ فَرِيضَة جمع فَرائِض: دینی فرض، ربانی فرمان، حکم، ہدایت، نصیحت، فرمان الٰہی، فرض نماز، املاک میں تقسیم کے متعلق حصے۔ فريضةُ الجمعة: جمعہ کی فرض نماز۔ ذو الفرائِض: قرآن مجید کے مقرر کردہ ورثاء۔ علمُ الفرائِض: انتقال جائیداد بطور ورثہ کا قانون۔ افتـراض: فرض کرنا، مفروضہ، فرض، گمان، قیاس، تصور پیش از وقوع، قیاس اولین، مقدمہ صغری و کبری بنیادی شرط۔ مفروضہ نظریہ۔ اِفتراضي: فرضی، مشروط، مفروضہ۔ فَارِض: بوڑھا، سن رسیدہ۔ مَفْرُوض: فرض کیا ہوا، مفروضہ بطور تمہید یا شروع میں کیا ہوا۔ مَفْرُوضَات: فرائض، ذمہ داری کے احساس۔

فرط: فَرَطَ ـفُرُوطًا: آگے بڑھنا، مقدم ہونا۔ ـ فَرْطًا ہُ: پر غالب ہونا۔ ـــ على فلان: سے پہلے جلدی کرنا۔ پر ظلم کرنا۔ ـ ولداً: کا بچہ مرنا۔ ـ منه قولٌ: بغیر سوچے سمجھے کہنا۔ ـــ اليه رسولاً: کے پاس جلدی قاصد بھیجنا۔ ـــ فَرْطًا و فَرَطَةً القومَ: لوگوں سے پہلے گھاس یا پانی کے پاس جانا صفت: فَارِط جمع فَارِطُون و فُرَّاط۔ فَرَّطَ ہُ: کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔ ـــ اليه رسولاً: کے پاس قاصد روانہ کرنا۔ فَارَطَ فِراطًا و مفارَطَةً ہُ: سے سبقت لیجانا۔ اَفْرَطَ: کام میں جلدی کرنا۔ ـ رسولاً: قاصد کو بھیجنا۔ ـ فلانٌ ولَدًا: کا بچہ بلوغت سے پہلے فوت ہو جانا۔ ـ بيده إلى السيف ليستلّه: تلوار کھینچنے میں جلدی کرنا۔ تَفَرَّطَ الفرسُ الخيلَ: گھوڑے کا گھوڑوں پر سبقت کرنا۔ تفارَطَ: آگے بڑھنا، جلدی کرنا۔ ـ القومُ: ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ـــ تِ الهمومُ: کو غموں کا لاحق ہونا۔ اِفْتَرَطَ اليه في الامر: میں سے آگے بڑھنا، میں پر سبقت لیجانا۔ اِفْتَرَطَ ولداً: کا بچہ چھوٹی عمر میں مر جانا۔ الفُرْطُ: واحد جمع اَفْرَاطُ الصباح: صبح کی پہلی شعاعیں۔ الفَرَط: اپنی قوم سے پانی کی طرف جانے میں سبقت کرنے والا۔ اس میں واحد اور جمع یکساں ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: رجلٌ فَرَطٌ و قومٌ فَرَطٌ: اور اسی سے ہے: انَا فَرَطُكُم على الحوض: میں تم سے پہلے حوض پر پہنچنے والا ہوں، جلد بازی، پہلے پہنچا ہوا اجر، بچے کی میت کی دعا میں کہتے ہیں: اللّٰهُمَّ اجعله لنا فَرَطًا: (اے اللہ اس کو ہمارے لئے آگے پہنچنے والا اجر بنادے) نابالغ بچہ۔ کہا جاتا ہے: سبقةُ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فَرَطٌ كثيرٌ: اس سے پہلے بہت سے نابالغ بچے مر گئے۔ الفُرُط: وہ تیز گھوڑا جو سب گھوڑوں سے آگے بڑھ جائے۔ الفُرطَة و الفُرطَة: نکلنا، آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے: هو ذُو فُرُطَةٍ في البِلاد: وہ بہت سے سفر کرنے والا ہے۔ الفُراطَة و الماءُ الفِراط: وہ پانی جو چند قبیلوں کے درمیان مشترک ہو اور جو اس تک پہلے پہنچ جائے اسی کا ہو جائے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے: بئرٌ فُراطَةٌ۔

۲۔ فَرَطَ ـُ فَرْطًا في الامرِ: میں کوتاہی کرنا اور اسے ضائع کرنا۔ ــــ منه شيءٌ: سے چیز کا جاتا رہنا۔ فَرَّطَ في الشيءِ: میں کوتاہی کرنا اور اس میں عاجزی ظاہر کرنا۔ ــ الشيءَ و في الشيءِ: کو ضائع کرنا، کو متفرق کرنا، بکھیرنا۔ فَرُطُ الاشجار عند العامة: زیتون، اخروٹ اور بادام وغیرہ کے درخت (سریانی لفظ)۔ ــ عنه: کو مہلت دینا، سے رکنا۔ ــ اللّٰهُ عنه ما يكره: کو اللہ تعالیٰ کا مکروہات سے دور کرنا۔ اَفرَطَ الامرَ: کو بھول جانا، چھوڑ دینا۔ ــــ الشيءَ: کو بھول جانا، ترک کر دینا۔ کہا جاتا ہے: ما افرط منهم احدًا: اس نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تَفَرَّطَ الشيءُ: کا وقت گذر جانا۔ تَفارَطَ الشيءُ: کے وقت میں دیر ہونا۔ کہا جاتا ہے: تفارطت الصلٰوةُ عن وقتها: نماز اپنے وقت سے متاخر ہو گئی۔ اِفترطَ: کہا جاتا ہے: فلانٌ لا يُفتَرطُ اِحسانُه: فلاں کے احسان کے ختم ہونے کا خوف نہیں کیا جاتا۔ اِنفَرَطَ: کھلنا۔ الفَرْط: وقت۔ کہا جاتا ہے: اتيتُه فَرْطًا: میں اس کے پاس چند دنوں کے بعد آیا، یہ وقت پندرہ دن سے زائد اور تین دن سے کم نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے: آتيكَ فَرْطَ يومٍ او يَومَين: میں تمہارے پاس ایک یا دو دن کے بعد آؤں گا۔ لا القاهُ اِلّا في الفرط: میں اس سے چند ایام میں ایک مرتبہ ملوں گا۔ ــــ والفُراطَة عند العامة: چھوٹے سکے جیسے پانچ قروش کا سکہ وغیرہ۔ الفَرَط: وہ کام جس میں کوتاہی کی جائے۔ الفُرُط: چھوڑا ہوا کام۔

۳۔ فَرَطَ ـُ فَرْطًا عليه في القول: سے پیش دستی کرنا اور حد سے گزر جانا، سے بات کرنے میں جلدی کرنا۔ ــ علی فلان: کو تکلیف دینا۔ فَرَّطَهُ: کی مدح یا ہجو میں حد سے گزر جانا۔ اَفرَطَ: زیادتی یا کمال کے لحاظ سے حد سے تجاوز کرنا۔ ــــ الاناءَ: برتن کو لبالب بھرنا۔ ــــ علی الرجُلِ: پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ الفُرُط (مص) جمع اَفرُط و اَفراط۔ اِفراط کا اسم بمعنی حد سے تجاوز۔ الفُرُط: اسراف، ظلم و زیادتی۔ ــ الامرُ الفُرُط: وہ بات یا کام جس میں حد سے تجاوز کیا گیا ہو۔

۴۔ فارَطَ فِراطًا و مُفارَطَةً ہٗ: کو پا لینا۔

۵۔ الفُرط جمع اَفرُط و اَفراط: ٹیلہ کا سرا، چھوٹی پہاڑی، راستہ کا نشان۔ الفُرُط: دامن کوہ۔ مَفارِط البلاد: اطراف بلاد۔

۶۔ فَرطَحَ فَرطَحَةً الشيءَ: کو چوڑا کرنا۔ رأسٌ فِرطاح و مُفرطَح: چوڑا سر۔

۷۔ فَرطَسَ الخِنزيرُ: سور کا اپنی ناک کو لمبا کرنا۔ الفِرطاس: چوڑا۔ فُرطُوسَةُ الخنزير جمع فَراطِيس: سُور کی ناک۔ الفِرطيسة: ناک کا بانسہ۔ فِرطِيسَةُ الخنزير: سُور کی ناک۔ جمع فَراطِيس۔

○ فَرَطَ ـُ فَرطًا ہ: سے پہلے یا آگے ہونا، سے مقدم ہونا۔ ــــ من: کی زبان سے الفاظ کا نادانستہ نکل جانا، پھسل پڑنا؛ سے نکلنا، بچنا، نظر بچانا، کو نادانستہ پیش آنا، سے اوجھل ہو جانا۔ ــ في: کو نظر انداز کرنا، میں غفلت کرنا، کے بارے میں بے پروا ہونا، فرض ناشناس ہونا، غافل ہونا۔ ــ ہ: (پھل) چھیلنا۔ فرط منه شيءٌ: کو ضائع کر دینا، کو کھو دینا، نہ پا سکنا۔ فَرَّطَ ہٗ/ ہ/ في: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، فراموش کرنا۔ ــــ ہ/ في: کو چھوڑنا، سے دست بردار ہونا، کو ترک کرنا، سے الگ ہو جانا، سے قطع تعلق کرنا، کو فارغ خطی دینا، سے دست کش ہونا، کو تیاگنا۔ ــ ہ/ عن: سے جدا ہونا، علیحدہ ہو جانا۔ ــ في: کو نظر انداز کرنا، میں غفلت کرنا، کے بارے میں پروا نہ ہونا، فرض ناشناس ہونا، غافل ہونا؛ میں حدود سے تجاوز کرنا، میں بہت دور چلا جانا، میں، بہت زیادہ ہونا، بے اندازہ ہونا، حد سے زیادہ سعی کرنا، مبالغہ سے کام لینا؛ کو ضائع کرنا، گنوانا۔ اَفرَطَ في: میں مناسب حدود سے آگے بڑھ جانا، بہت دور چلا جانا، بہت زیادہ یا بے اندازہ ہونا، میں مبالغہ کرنا، کو غلط یا ناجائز استعمال کرنا۔ انفرَطَ من: سے اترنا، سے الگ ہونا، سے گرفت ڈھیلی ہونا، جدا ہونا۔ ــــ: کھلنا، حل ہونا، ختم ہونا، اختتام پذیر ہونا۔ اِنفرَطَ عقدُهم: وہ ہمت ہار گئے، وہ الگ ہو گئے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، وہ غائب ہو گئے۔ فَرْط: زیادتی، حد اعتدال سے تجاوز، مبالغہ۔ فَرط: (روپیہ، سرمایہ وغیرہ پر) سود۔ فُراطَة: چھوٹی ریزگاری، چھوٹے سکے۔ تفريط: تغافل، بے پروائی، بے توجہی، فروگذاشت، ادائے فرض میں کوتاہی۔ اِفراط: زیادتی، حد اعتدال سے تجاوز، مبالغہ۔ فارِط: گذشتہ۔ يومَ الاحد الفارط: [illegible] خرچ، شاہ خرچ، بے دریغ خرچ کرنے والا، اڑا دینے والا، بے دردی سے خرچ کرنے والا۔ مُفرِط: مبالغہ آمیز، بہت زیادہ۔

فَرطَحَ ہ: کو چوڑا کرنا، کشادہ کرنا، چپٹا کرنا، ہموار کرنا۔ مُفرطَح: چوڑا چپٹا، کشادہ، سپاٹ، قطبین پر پچکا ہوا، موٹا، فربہ، چربیلا، فربہ اور ڈھیلا ڈھالا، بہت ہی پھولا ہوا، اپھرا ہوا، حد سے بڑھا ہوا۔

فرع: ۱۔ فَرَعَ ـَ فَرْعًا و فُرُوعًا الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ ــ القومَ: قوم سے شرافت اور خوبصورتی میں فائق ہونا۔ ــــ رأسَهُ بالعصا: کے سر پر لاٹھی مارنا۔ فَرَّعَ في الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ اَفرَعَ الشيءُ: طویل اور بلند ہونا۔ تَفَرَّعَ الشيءَ: پر بلند ہونا۔ ــ القومَ: قوم سے فائق ہونا، کو گالیاں دینا۔ الفَرْع (مص) من كل شيء جمع فُرُوع: ہر شے کا اوپر کا حصہ جو جڑ سے نکلا ہو، جیسے: فرعُ الشجرة: (درخت کی شاخ)۔ فرعُ القوم: شریف سردار۔ فَرعُ الاُذُن: کان کا اوپر کا حصہ۔ الفَرعَة جمع فِراع: راستہ کا بلند اور اوپر کا حصہ، پہاڑ کی چوٹی۔ الفارِع (فا): بلند خوبصورت۔ کہا جاتا ہے: جبل فارِعٌ: اردگرد کے پہاڑوں سے اونچا پہاڑ۔ الفارِعَة جمع فَوارِع: فارع کا مونث۔ فارِعَةُ الجبل: پہاڑ کا اوپر کا حصہ۔ فارعةُ الطريق و فَرعاؤُهُ: راستہ کا اوپر والا حصہ اور وہ حصہ جہاں راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ المُفرِع: طویل، لمبا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُفرِعُ الكتف: فلاں چوڑے یا اونچے کندھے والا ہے۔

۲۔ فَرَعَ ـَ فَرْعًا و فُرُوعًا الوادیَ: وادی میں اترنا۔ فَرَّعَ من الجبل: پہاڑ سے اترنا۔ اَفرَعَ من الجبل: پہاڑ سے اترنا۔ ــــ بالقوم: قوم کے پاس اترنا۔ الفارِع: پست۔

۳۔ فَرَعَ ـَ فَرْعًا و فُرُوعًا الفرسَ باللجام: گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ کہا جاتا ہے: هذا اوّلُ صيدٍ فَرَعَهُ: یہ پہلا شکار ہے جس کا اس نے خون گرایا۔ اَفرَعَت الابلُ: اونٹنی کا پہلا بچہ جننا۔ ــ الفرعةَ: (اونٹ بھیڑ بکریوں) کا پہلا بچہ ذبح کرنا۔ ــــ اللجامُ الفرسَ: لگام کا گھوڑے کے منہ کو خون آلود کرنا، لہولہان کرنا۔ ــ تِ الضبعُ الغنمَ او في الغنم: بجو کا بکریوں میں تباہی مچانا اور ان کو مار ڈالنا۔ اُفرِعَ بفلان: پکڑا جانا اور قتل ہو جانا۔ اِفتَرَعَ البكرَ: کنواری لڑکی کی بکارت زائل کرنا۔ اِستَفرَعَ الرجُلُ: اونٹوں اور بکریوں کے پہلے بچے ذبح کرنا۔ الفَرَع واحد فَرَعَة: اونٹوں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اور بکریوں کے پہلے بچے۔

۴۔ فَرَعَ ـَ فَرْعًا و فُرُوعًا الارضَ: زمین میں گھومنا پھرنا۔ فَرَّعَ فی الارض: زمین میں گھومنا، پھرنا۔ اَفْرَعَ حاجتَهُ او سفرَهُ: کام یا سفر شروع کرنا۔ ـــ الامرَ: کو شروع کرنا۔ ـــ الارضَ: زمین میں گھومنا پھرنا۔ ـــ القوم من سفرِهِم: سفر کی واپسی کے وقت سے پہلے سفر سے واپس آجانا۔ اِسْتَفْرَعَ الشیءَ: کو شروع کرنا۔

۵۔ فَرَعَ ـَ فَرْعًا و فُرُوعًا بین القوم: لوگوں میں روک بن جانا یا اصلاح کرنا۔ المِفْرَع جمع مَفَارِع: لوگوں میں صلح کرانے والا۔

۶۔ فَرِعَ ـَ فَرَعًا: گھنے بالوں والا ہونا۔ صفت: اَفْرَع م فَرْعاء جمع فُرْع۔ فَرَّعَ بینهم: کے درمیان تفریق کرنا۔ ـ المسائِلَ من هذا الاصل: مسائل کو قاعدہ یا اصل کی فروع بنانا اور اصل سے ان کا استنباط کرنا۔ تَفَرَّعَت الاغصانُ: ٹہنیوں کا بہت ہونا اور پھیلنا۔ ـــ الشیءُ من الشیء: ایک چیز کا دوسری پر مترتب ہونا، مبنی ہونا۔ ـــ ت المسائِلُ: مسائل کا اصول سے متفرع ہونا۔ الفَرْع جمع فِراع: پہاڑی نالہ۔ جمع فُرُوع: منفعت بخش مال۔ ـــ فی المسَائِلِ العِلمِيَّة: وہ مسئلہ جو دوسرے مسئلہ پر مبنی ہو اور اس کو اس پر قیاس کیا جائے۔ اس کے مقابل اصل ہے۔ فَرْعُ المرأة: عورت کے بال۔ کہا جاتا ہے: ضَرَبَهُ علی فَرْعَیْ اَلْیَتِهِ: اس نے اس کے سرین کے اس حصہ پر مارا جو بیٹھنے میں زمین پر لگتا ہے۔

۷۔ فَارَعَ هُ: کو کفایت کرنا اور اس کا بار اپنے ذمہ لینا۔ اَفْرَعَ اهلَهُ: اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا۔

۸۔ الفَرَعَ واحد فَرْعَه (ح): جوئیں۔ الفَرَعَ واحد فَرْعَة: جوئیں، قسم۔ کہا جاتا ہے: تراضوا بالفَرَع: وہ تقسیم پر راضی ہو گئے۔

۹۔ فَرْعَنَ فَرعَنَةَ الرجُلُ: تکبر کرنا، مکار، فریبی ہونا۔ تَفَرْعَنَ: فرعونوں جیسے اخلاق اختیار کرنا۔ ـــ النباتُ: نباتات کا لمبا اور مضبوط ہونا۔ ـــ فلانٌ علینا: کے خلاف سرکشی کرنا، پر زبردستی کرنا۔ الفَرْعَنَة: مکاری، فریبی۔ ـــ عند العامة: رندی، بدکاری، آوارگی، لاپرواہی، غرور۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُفَرعِن: فلاں شخص متکبر ہے، مغرور ہے۔ فِرعَوْن و فُرْعُون و فُرعَون: سرکش، باغی۔ ـ جمع فَرَاعِنة: مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔

○ فَرَعَ ـَ فَرْعًا و فُرُوعًا ہ: سے بازی لیجانا، پر سبقت لیجانا، سے آگے نکل جانا، سے اعلی و اشرف ہونا۔ فَرَّعَ: شاخ در شاخ ہونا۔ ـــ ہ من: کو سے حاصل کرنا، کو سے مشتق کرنا، کو سے استخراج کرنا، استنباط کرنا۔ تَفَرَّعَ: نئے کام کی طرف مائل ہونا، شاخ در شاخ ہونا، شاخیں نکلنا، تمام اطراف میں پھیلنا (سڑک، پائپ لائن) کا جدا ہونا، دو راستے نکلنا، تقسیم ہونا، پھوٹنا۔ اِفتَرَعَ ها: کا کنوارپن ختم کرنا۔ فرع جمع فُرُوع اَفْرُع: ٹہنی، شاخ، ٹہنیاں، شاخیں، مشتق، حصہ، ذیلی تقسیم، برانچ آفس branch offic (ذیلی دفتر)، برانچ، برانچ لائن، فیڈر لائن، برانچ وائر، فیڈ وائر، ذیلی محکمہ، ذیلی ادارہ۔ الفروع یا علم الفُرُوع: عملی یا استفادی فقہ، عملی یا استفادی اخلاقیات/ اصول اخلاق۔ شرعًا و فرعًا: مکمل حق کے ساتھ، صحیح مقصد کے ساتھ، انصاف سے۔ تَفَرُّع: تعدد اطراف، ذہنی ہمہ گیری جمع تَفَرُّعَات: شاخ در شاخ ہونا۔ تفرع، تفرعات: ثانوی اشیاء، لازم و ملزوم حالات، معمولی عوامل۔ فَارِع: لمبا، اونچا، پتلا اور لمبا، پتلا دبلا، خوبصورت۔ فارِع الطول: لمبا۔ فارع القامة: لمبا اور پتلا۔ مُفَرَّع: شاخ در شاخ۔ مُتَفَرِّعَات: ثانوی اشیاء لازم و ملزوم حالات، معمولی عوامل۔

فرغ: ۱۔ فَرَغَ ـُ و فَرِغَ ـَ فَرَاغًا و فُرُوغًا من العمل: کام سے فارغ ہونا، خالی ہونا۔ ـــ لَهُ و اِلَیهِ: کا قصد کرنا۔ ـــ فُرُوغًا الرجُلُ: مر جانا (کیونکہ مرنے پر جسم روح سے خالی ہو جاتا ہے)۔ ـــ الظرفُ: برتن کا خالی ہو جانا۔ ـــ فلانٌ من الشیء: کو تمام کرنا۔ فَرَّغَ و اَفْرَغَ الاناءَ: برتن کو خالی کر دینا۔ تَفَرَّغَ: کام سے خالی ہونا۔ ـــ لِلامر: کام میں اپنی پوری طاقت لگا دینا اور پوری پوری کوشش کرنا۔ الفَرْغ جمع فُرُوغ: قحط زدہ زمین۔ الفِرْغ: خلا۔ الفَرِغ: فارغ۔ الفِرَاغ جمع اَفْرِغَة: جانور کی پیٹھ پر لدے ہوئے بوجھ کا ایک طرف کا حصہ۔ الاَفْرَغ م فَرْغاء: فارغ۔ اِنفِرَاغ جسمٍ مکهرب او مُرَکَّم: جسم کا برقی چارج سے خالی ہونا۔ (ف): ہلکے کئے ہوئے گیس میں برقی رو کا گزرنا۔ حَلْقَةٌ مُفْرَغَة: تکیا جس کے اطراف ٹھوس ہوں اور اندر سے خالی ہو۔

۲۔ فَرَغَ ـُ فُرُوغًا دمُهُ: کا خون رائیگاں جانا، بدلہ کا مطالبہ نہ کیا جانا۔ ـــ فَرْغًا علیه الماءَ: پر پانی انڈھیلنا۔ فَرُغَ ـُ فَراغَةَ ت الطعنةُ: نیزے کی ضرب کا وسیع ہونا۔ صفت: فریغة۔ فَرَغَ ـَ فَرغًا علیه الماءَ: پر پانی انڈھیلنا، گرانا۔ ـ فَرَاغًا الماءُ: پانی گرنا، انڈھیلا جانا۔ فَرَّغَ الماءَ: پانی انڈھیلنا۔ ـ الدماءَ: خون بہانا۔ کہا جاتا ہے: فَرَّغَ اللّٰهُ علیه الصبرَ: اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے (دعائیہ کلمہ)۔ اَفْرَغَ الماءَ: پانی انڈھیلنا۔ ـــ الدماءَ: خون بہانا۔ ـــ الذهب و نحوهُ: سونے وغیرہ کو سانچے میں ڈالنا۔ الفَرْغ جمع فُرُوغ: برتن کا وہ کنارہ جس سے پانی انڈھیلا جائے۔ کہا جاتا ہے: هذه طعنة ذات فَرْغٍ: یہ نیزے کا زخم چوڑا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ ذَهَبَ دمُهُ فَرْغًا او فِرغًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ الفِرَاغ جمع اَفْرِغَة: ڈول کا کنارہ جہاں سے پانی انڈھیلا جائے، برتن، بڑا پیالہ، نیزے کا چوڑا حصہ، وہ جانور جو چلتے وقت کشادہ قدم رکھے۔ کہا جاتا ہے: رجُل فِراغ: تیز رفتار لمبے ڈگ بھرنے والا۔ الفَرِیغ جمع فِرَاغ: چوڑا، ہموار زمین گویا راستہ ہو، چلتے وقت چوڑے قدم رکھنے والا جانور۔ رجُل فَرِیغ: تیز زبان آدمی۔ طَرِیقٌ فَرِیغ: چوڑا راستہ۔ الفَرِیغة: فریغ کا مونث، پانی کا چھاگل۔ ضَربَةٌ فَرِیغ و فریغة: تلوار کا کشادہ زخم جس سے خون بہے۔ طعنةٌ فَرْغاء: نیزے کا کشادہ زخم۔ الفَرْغان: کشادہ برتن۔ دِرهَمٌ مُفْرَغ و مُفَرَّغ: سانچے میں ڈھلا ہوا درہم جس پر ٹھپہ نہ ہو۔ فَرَسٌ مُسْتَفْرِغ: انتہائی تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

۳۔ فَرُغَ ـُ فَرَاغَةً: بے چین ہونا، گھبرانا۔

○ فَرَغَ ـُ و فَرِغَ ـَ فُرُوغًا و فَرَاغًا: خالی ہونا، تھکا ہوا ہونا۔ ـ من: سے چھٹکارا پانا، پورا کیا جانا، کو مکمل کرنا، ختم کرنا۔ ـــ ل/اِلی: کی طرف توجہ دینا، کی طرف میلان ہونا، کو تن دہی سے کرنا، میں لگ جانا، میں مشغول رہنا، لگا رہنا۔ فرغ اِلی نفسه: اپنے خیالات مجتمع کرنا۔ فَرَّغَ ہ: کو خالی کرنا؛ سے مال اتارنا۔ ہ: کو انڈھیلنا۔ اَفْرَغَ ہ: کو خالی کرنا۔ ـ ہ علی: کو پر انڈھیلنا۔ ـــ ہ فی: کو میں انڈھیلنا۔ ـــ ہ: کو جہاز سے اتارنا۔ اَفْرَغَهُ فی قالب: کو سانچے میں ڈھالنا (مجازا)۔ اَفْرَغَ مَجْهُودَهُ یا جَهْدَهُ فی: میں انتہائی کوشش کرنا، زور لگانا، جدوجہد کرنا، میں پورا زور لگانا، مقدور بھر کوشش کرنا۔ تَفَرَّغَ: (کام سے) فارغ ہونا، غیر مشغول ہونا، بیکار ہونا، یونہی پڑا ہونا، کو فرصت ہونا۔ ـــ ل/اِلی: (کسی کام کے لئے) آزاد ہونا، فارغ ہونا، صرف میں مشغول رہنا، میں لگا رہنا، پر توجہ دینا، کو تن دہی سے کرنا۔ اِسْتَفْرَغَ ہ: کو خالی کرنا۔ ـــ: قے کرنا۔ ـــ مَجْهُودَهُ: میں انتہائی کوشش کرنا، زور

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لگانا، جدوجہد کرنا، میں ہر کوشش کرنا، میں پوری طاقت صرف کرنا، میں مقدور بھر کوشش کرنا۔ فَرِغ: خالی۔ فَرَاغ: خلا، خالی ہونا، خالی جگہ (ـــ ل: کے لئے خالی جگہ، گنجائش) علاقہ یا حقوق (ان چیزوں کے جو بطور جائداد نا قابل انتقال ہوں لیکن بطور قبضہ منتقل ہو سکیں)، خالی وقت، فرصت۔ فَرَاغِی: خلا کا، خلا سے متعلق۔ فُرُوغ: خالی ہونا، خلا، کھوکھلا پن، خالی جگہ، غیر مشغولیت، فراغت، اختتام، سخت تھکاوٹ۔ فُرُوغُ الصبر: بے صبری، بے تابی۔ اَفْرغ: زیادہ خالی۔ تفریغ: خالی کرنا، مال اتارنا۔ اِفراغ: خالی کرنا، انڈھیلنا۔ اِسْتِفْرَاغ: خالی کرنا، قے کرنا۔ فَارِغ: خالی، غیر مشغول، بیکار، یونہی پڑا ہوا، فرصت کے وقت کا، فرصت، دھڑا، کٹوتی (تجارت)۔ بفارِغِ الصبر: بے صبری سے، بے تابی سے۔ مَفْرُوغٌ منه: (مسئلہ وغیرہ) طے شدہ، (موضوع وغیرہ) جامع یا مکمل بحث کیا ہوا۔ مُفَرِّغ: خالی کرنے والا، خلا پیدا کرنے والا۔ آلةٌ مُفَرِّغَةٌ: خلا پمپ vacuum pump۔ مُفَرَّغ: خالی شدہ، ہوا نکالا ہوا، خلا کا، خلا کے متعلق؛ کھوکھلا۔ مُفْرَغ: (سانچہ میں) ڈھالا ہوا۔ حَلْقَة مُفْرَغة: بے جوڑ چھلا، انگوٹھی، انگشتری؛ استدلال کا چکر، برائی کا چکر۔

فرف: الفَرْفَح: چکنی پھسلنے والی زمین۔ الفَرْفَحة (عند العامة): چستی۔ کہتے ہیں: فَرْفَحَ فلانٌ فهو مُفَرْفَحٌ: وہ چست ہوا۔ صفت چست۔ الفرفَحِين (ن): لوبیا، باقلا، خرفہ (purslane)۔

فرفط: فَرْفَطَ الشيءَ (عند العامّة): کو ریزہ ریزہ کرنا۔ فَرْفُوطة (سریانی): ریزہ جمع فَرافیط: ریزے۔

فرق: ا فَرَقَ ـ فَرْقًا و فُرْقَانًا بینهما: کو ایک دوسرے سے جدا کرنا۔ ـــ البحرَ: سمندر کو پھاڑ کر دو حصے کرنا۔ ـــ فَرْقًا الشَّعَرَ: بالوں میں کنگھی کرنا، مانگ نکالنا۔ ـــ فُرُوقًا لهُ الطريقُ: کے لئے راستہ کا واضح ہونا۔ ـــ الامرُ لفلانٍ: معاملہ یا بات کا کسی پر واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ ـــ له عنِ الشيء: پر کی تشریح و توضیح کرنا۔ ـــ ت الناقةُ: اونٹنی کو دردِ زہ شروع ہونا۔ فَرَّقَ تَفْرِيقًا و تَفْرِقَةً الشيءَ: کو تقسیم کر کے جدا جدا کرنا۔ ـــ شَعْرَهُ بالمشط: بالوں میں کنگھی کر کے مانگ نکالنا۔ فَارَقَ فِرَاقًا و مُفَارَقَةً ہٗ: سے علیحدگی و جدائی اختیار کرنا۔ اَفْرَقَ غنمَهٗ: اپنی بکریوں کو کھو دینا، ضائع کر دینا۔ ـــ المريضُ من مرضِهِ: مریض کا بیماری سے افاقہ پانا، تندرست ہو جانا۔ تَفَرَّقَ تَفَرُّقًا و تِفِرَّاقًا و تَفَارَقَ و افْتَرَقَ: بکھر جانا، منتشر ہو جانا۔ کہا جاتا ہے: تَفَرَّقت بِهِم الطرقُ: ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے متفرق راستہ پر چل دیا۔ اِنْفَرَقَ عنهم: سے جدا ہونا۔ ـــ لهُ الطريقُ: پر راستہ کا واضح ہونا۔ الفَارِق (فا) جمع فُرَّاق م فارِقَة جمع فَوَارِق و فَارِقات: ہر وہ بات جو حق و باطل کو جدا کر دے، اکیلا بادل کا ٹکڑا۔ ـــ جمع فَوَارِق و فُرَّق و فُرُق و فُرَّاق: دردِ زہ شروع ہونے پر دوسرے اونٹوں سے الگ ہو کر اکیلی ہونے والی اونٹنی۔ الفَارُوق: امور میں فیصلہ کرنے والا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا لقب۔ الفُرُق: تورات۔ قرآن۔ الفَرْق (مص): مانگ (بالوں میں نکالی ہوئی)۔ الفِرْق: ہر چیز کی قسم، چیز کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا، بچوں کی ٹولی، بکریوں وغیرہ کا بڑا ریوڑ۔ فِرْقُ النحل (ح): شہد کی مکھیوں کی نو آبادی جو ملکہ مکھی اور نر کارکنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ گنجان آباد چھتہ کو چھوڑ کر بنائی جاتی ہے شہد کی مکھیاں پالنے والے اس قسم کی نو آبادیوں سے نئے چھتے تعمیر کرتے ہیں۔ الفَرَق: سامنے کے دو دانتوں کا فاصلہ اور دوری۔ ـــ جمع اَفْراق و اَفْرُق: بمعنی فَرْق؛ صبح یا صبح کی ابتداء۔ ـــ في الخيل: گھوڑے کے ایک سرین کا دوسرے سے اٹھا ہوا ہونا، جو ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ نَبْتٌ فَرِقٌ: متفرق یا چھوٹی گھاس جو زمین کو نہ چھپا سکے۔ الفُرْقَة و الفِرَاق: جدائی۔ الفِرْقَة جمع فِرَق: لوگوں کا ایک گروہ۔ الفُرْقَان (مص): ہر وہ چیز جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو، دلیل، مدد، صبح، سحر، تورات، قرآن۔ الفَرِيق جمع اَفْرِقَاء و اَفْرِقَة و فُرُوق: آدمیوں کا ایک گروہ اور بڑی جماعت، ریوڑ۔ فَرِيقُ الخيل: دوسروں سے آگے بڑھنے والا گھوڑا۔ نِيةٌ فَرِيقٌ: بٹی ہوئی نیت۔ الفَرِيقة: بکریوں کا ریوڑ۔ الافرق م فَرْقَاء جمع فُرْق: جس کی داڑھی یا پیشانی کے بال جدا کئے ہوئے ہوں، جس کے دانت جدا جدا ہوں، جس نے بالوں میں مانگ نکالی ہوئی ہو۔ دِيكٌ اَفْرَق: وہ مرغ جس کی کلغی شاخ در شاخ ہو۔ تَيْسٌ اَفْرَق: دور دور سینگوں والا مینڈھا۔ کہا جاتا ہے ضَمَّ تفاریق متاعه: اس نے اپنے متفرق سامان کو اکٹھا کیا۔ اخذحقهُ بالتفارِيق: اس نے اپنا حق تھوڑا تھوڑا کر کے لیا۔ المَفْرِق و المَفْرَق من الطريق جمع مَفَارِق: دوراہا۔ ـــ من الشعر: بالوں کا وہ حصہ جہاں مانگ نکالی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے وَقَّفَهٗ على مفارق الحديث: اس نے اسے بات کے واضح پہلوؤں سے مطلع کیا۔

۲ فَرَقَ ـ فَرْقًا ـ الطائرُ: [illegible] پرندہ کا بیٹ کرنا۔ ـــ الطائرَ: پرندہ سے بیٹ کرانا۔

۳ فَرِقَ ـ فَرَقًا منه: سے گھبرا جانا۔ فَرَّقَ تَفْرِيقًا و تَفْرِقَةً الرجُلَ: کو ڈرا دینا، کو خوف زدہ کرنا، کو خوف دلانا۔ الفَرَق (مص) جمع اَفْراق و اَفْرُق: گھبراہٹ۔ کہا جاتا ہے: فَرَقٌ خير من حُبّ: محبت کئے جانے سے بہتر ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے۔ الفَرُق و الفَرِق و الفَارُوق و الفَرُوق و الفَرُّوق م فَرِقَة و فَرُقَة: بہت گھبرانے والا۔ الفَرُوقَة و الفَرُّوقَة و الفَارُوقَة: (مذکر و مونث دونوں کے لئے): بہت گھبرانے والا یا والی، بزدل مرد یا عورت۔

۴ فَرِقَ ـ فَرَقًا الرجُلُ: موج میں داخل ہونا۔ الفِرْق: موج۔

۵ الفُرْق: اناج وغیرہ ناپنے کا برتن۔ الفَرْق: کتان۔ الفِرْق: ٹیلہ، پہاڑی۔ الفَرُوق: قسطنطنیہ کا لقب۔ الفَرِيقَة (ط): زچہ کے لئے پکایا جانے والا کھانا۔

۶ الفَرْقد (فلك): قطب شمالی کے قریب ایک ستارہ کا نام، اس سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، اس کی دوسری جانب ایک اور ستارہ جو اس سے روشنی میں کم ہے، اس طرح یہ دو ستارے ہوئے جو فَرْقدان کہلاتے ہیں۔ ـــ من الارض: ہموار اور سخت زمین۔ ـــ جمع فَرَاقِد (ح): نیل گائے کا بچہ۔

۷ فَرْقَعَ فَرْقَعَةً و فِرْقَاعًا: بہت تیز دوڑنا، گوز کرنا۔ صفت: فِرْقاع۔ ـــ الاصابعَ: انگلیاں چٹخانا۔ ـــ فلانًا: کی گردن مروڑنا۔ ـــ الفِرقَيعة عند العامة: پٹاخہ چلانا۔ تَفَرْقَعَ: انگلیوں کا چٹخنا۔ اِفْرَنْقَعَ: انگلیوں کا چٹخنا۔ الفِرْقَيعة جمع فِرقَيعات: پٹاخہ، ہوائی، پھلجھڑی وغیرہ (عام زبان میں)۔

۸ اِفْرَنْقَعَ عنهُ: سے الگ ہونا، دور ہونا۔

○ فَرَقَ ـ فَرْقًا و فُرْقَانًا ہ: کو الگ کرنا، جدا کرنا، تقسیم کرنا، دو ٹکڑے کرنا۔ ـــ بين: کے درمیان امتیاز کرنا، فرق کرنا۔ فَرَّقَ ہ عن: کا سے فرق کرنا۔ ـــ ہ على/في: کو پر یا میں تقسیم کرنا۔ ـــ ہ: کو ڈرانا، خائف کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا، ہولا دینا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا۔ فَرِّقْ تَسُدْ: پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ فَارَقَ ہ/ ہ: کو چھوڑنا، ترک کرنا، سے عاہ ہونا، سے علیحدگی اختیار کرنا، سے پیچھے ہٹنا، سے تجاوز کرنا، انحراف۔ ۲ تَفَرَّقَ: علیحدہ ہونا، جدا ہونا، منقسم ہونا، منتشر ہونا، بکھر جانا، صحت کا گرنا۔ اِنْفَرَقَ: علیحدہ ہونا یا ہو جانا، الگ ہونا یا ہو جانا، متفرق ہونا، [illegible] ہونا۔ ـــ عن: اپنے آپ کو سے علیحدہ کر لینا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سے الگ ہونا، کوترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اِفْتَرَقَ بمعنی تَفَرَّقَ: اِفْتَرَقَ طَرائِقَ قِدَدًا: کئی حصوں، گروہوں میں بٹ جانا، تقسیم ہوجانا۔ فَـرْق: جدائی، علیحدگی، فراق، ہجر، تقسیم، تمیز، تفریق، انقطاع، امتیاز، فرق، مانگ (بالوں کی) جمع فُرُوق: اختلاف، نامطابقت، چھوٹی ریزگاری، سکے۔ جمع حقائق کے لحاظ سے ملتے جلتے لیکن اپنے قانونی مضمرات کے لحاظ سے مختلف مقدمات (cases)۔ فِـرْق: حصہ، سیکشن، وحدت (unit)، گروہ، منڈلی، جتھا، علیحدہ مہم پر بھیجے جانا والا دستہ، ریوڑ، غول، گلہ، ڈار۔ فَرَق: خوف، ڈر، دہشت۔ فَـرِق: بزدل، ڈرپوک، پست ہمت، خوفزدہ، خائف۔ فِـرْقَة جمع فِـرَق: حصہ، ڈویژن، سیکشن، وحدت (یونٹ)، جتھا، گروہ، ٹولہ، پارٹی، کمپنی (فوجی) کسی خاص مہم پر بھیجا جانے والا فوجی دستہ، طبقہ، گریڈ، جماعت (سکول کی): ایک نصاب کے طالب علم کا طائفہ، جوڑی، ٹولی، ٹیم، جہاز وغیرہ کا عملہ (فوج کی) ڈویژن۔ الـفِـرْقَةُ الاَجْنَبِيَّة: فارن لیجن (foreign legion)۔ الفِرقةُ الخامسة: ففتھ کالم the fifth column۔ فِـرَقٌ مُصَفَّحَة: بکتربند ڈویژن۔ فِـرقةُ المطافي یا فرقةُ الاطفاء: فائر بریگیڈ، آگ بجھانے کا شعبہ۔ فِـرقةُ الاعدام: فائرنگ سکواڈ firing squad۔ فرقة استعراضية: طائفہ (show troupe) یا revue troupe، طائفہ جو حالات حاضرہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ فِـرقة مُوسِيقِيَّة: سازندوں کا طائفہ، آرکسٹرا orchestra۔ فِـرقةُ موسیقی: فوجی بینڈ باجہ۔ فُرقة: نااتفاقی۔ فریق جمع فُرُوق و اَفْرِقَة و افرقاء: جتھا، ٹولی، حلقہ، جمعیت، گروہ، فوج کی کمپنی، ٹروپ، خاص مہم پر بھیجا جانے والا دستہ، یونٹ، پارٹی، ٹیم، فریق، لفٹیننٹ جنرل، وائس اڈمرل۔ فـریق اول: لفٹیننٹ جنرل۔ فـریق ثان: میجر جنرل۔ فَـرُوق: بہت ڈرپوک، بزدل۔ فاروق: بہت بزدل، بودا، ڈرپوک۔ فاروقية: مصری ہوائی فوج کی موسم سرما کی ٹوپی کا نام۔ فرقان: ثبوت، گواہی، شہادت۔ الـفـرقـانُ: قرآن مجید۔ مَـفْـرَق و مَـفْـرِق جمع مَفَارِق: چوراہا، نقطہ تقاطع، دوشاخی تقسیم، دوشاخہ (سڑک کا)، تراہا، مقام اتصال، چوراہا، چوک۔ مَـفْـرَق الطرق: چوراہا۔ الـمَـفْـرَق یا قلعةُ المَفْرَق: (شمالی اردن میں ایک شہر کا نام)۔ مَـفْـرِق الشـعـر: بالوں کی مانگ۔ تـفاريق: اکیلے، علیحدہ علیحدہ حصے، علیحدہ کیے ہوئے حصے۔ بـالتـفـريق: بالتفصیل حصوں میں، خوردہ فروشی سے۔ بـالـتـفـرقـة: بالتفصیل، اجزاء کی صورت میں، خوردہ فروشی سے۔ مـع بُـعدِ الفارق: زبردست اختلاف کے باوجود۔ مُـفرِّق: تقسیم کنندہ، خوردہ فروش، ڈاکیہ۔ مُـفَرَّق: خوردہ فروشی یا پھٹکل کا یا سے متعلق۔ تـاجـرُ الـمُفَرَّق: خوردہ فروش۔ بـالـمُفَرَّق: خوردہ فروشی سے۔ مُـتَـفَرِّق: منتشر، بکھرا ہوا، نادرالوقوع، کبھی کبھی ہونے والا۔ مُـتَـفَـرِّقـات: متفرقات کا مجموعہ، متفرق اشیاء۔ مُـفْـتَـرَق و مُفْتَرَق الطُرُق: چوراہا، مقام اتصال۔ فَـرْقَـعَ فَرْقَـعَةً: بھک کرنا، تڑ تڑانا، چھٹنا، پھٹ کر اڑ جانا، دھماکے سے پھٹنا۔ تفَرْقَعَ: بمعنی فَرْقَعَ۔ فَرْقَعَة: دھماکا، بھک، پھٹ کی آواز، کڑک، گرج۔ مُـفَرقِع: بھک سے اڑ جانے والا، دھماکے کے ساتھ پھٹنے والا، بارود سے اڑانے والا، جمع مُفَرْقَعات: دھماکے سے پھٹنے والی چیزیں (یا مادے) پٹاخے، آتش بازی۔ فَرْقَد: بچھڑا، بچھیا۔ الفَرْقَدان: دبّ اصغر کے دو چمکدار ستارے (two bright stars of Ursa Minor)۔ فُـرْقُـلَّة جمع فَرَقِلّات: چابک۔

فرك: اـ فَرَكَ ـفَرْكًا الثوبَ: کپڑے کو ملنا ـــ الشيءَ عن الثوب: کو رگڑ یا کھرچ کر کپڑے سے زائل کرنا ـــ الجوزَ و نحوهُ: اخروٹ وغیرہ کو رگڑ کر چھلکا اتار دینا۔ فَـرَّكَ هُ: کو خوب رگڑنا۔ اَفْـرَكَ السنبلُ: بالی کا پھل کروانے کھانے کے قابل ہونا۔ تَفَرَّكَ و انْفَرَكَ: انگلیوں میں ملا جانا، چھلکا اترنا، مقشر ہونا۔ اِسْتَفْـرَكَ الحَبُّ في السُّنبلة: دانے کا بالی میں سخت اور موٹا ہوجانا۔ الـفَـرِك: اترے ہوئے چھلکے والا۔ کہا جاتا ہے: لوزٌ فَرِكٌ: آسانی سے چھلکا اتارا جانے والا بادام۔ الفَرِيك: چھلکے سے نکلا ہوا دانہ، وہ کھانا جو گھی میں ملا کر بنایا جائے۔ الـفَـرِيكِيَّة (ط): مقشر دانوں سے تیار کردہ کھانا۔ الـمُـفَـرَّكة (ط): متعدد شکلوں میں تیار کیا جانے والا کھانا۔ الـمَفْرُوك من الثیاب: بہت گہرا رنگا ہوا کپڑا۔ الـمَـفْـرُوكة (ط): ایک مٹھائی جو میوے، گھی اور چینی سے تیار کی جاتی ہے اور اس پر ملا ہوا پستہ اور بادام لگائے جاتے ہیں۔ الـقـملة المَفْرُوكة: جلد اطاعت کرنے اور کمزوری کی ضرب المثل ہے۔

۲۔ فَرِكَ ـفَرْكًا و فِرْكًا و فُرُوكًا و فِرْكَانًا هُ: سے بغض رکھنا۔ کہا گیا ہے کہ یہ میاں بیوی کے بغض کے لئے مخصوص ہے۔ فارَكَ مُفارَكَةً هُ: ایک دوسرے کو چھوڑ بیٹھنا۔ الفِرْك: عموماً بغض، میاں بیوی کا بغض۔ امرأةٌ فارِكٌ (فا) جمع فَوارِك: شوہر سے بغض رکھنے والی عورت۔ الـمُفَرَّك: مبغوض، چھوڑا ہوا۔

۳۔ فَرِكَ ـفَرَكًا تِ الأُذُنُ: کان کی جڑ کا ڈھیلا ہونا۔ صفت: فَـرِكة و فَـرْكـاء۔ تفَرَّكَ: رفتار یا گفتگو میں اٹکنا۔ کہا جاتا ہے: اِنْفَرَكَ منکبُ فلان: فلاں کا مونڈھا اتر گیا۔ الـمَفْرُوك (مفع) من الإبل: وہ اونٹ جس کے مونڈھے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہوں۔

○ فَرَكَ ـفَـرْكًا هُ: کوملنا، کورگڑنا۔ فَرَّكَ هُ: کوملنا، رگڑنا۔ تفَرَّكَ: رگڑا جانا۔ انفَرَك: رگڑا یا ملا جانا۔ فَريك: رگڑا ہوا، ملا ہوا، پکائی ہوئی سبز گندم۔ مِفْرَاك: تیزی سے گھومنے والی لاٹھی۔

فرم: اـ الـفَرَمَ ـفَرْمًا التبغَ واللحمَ: تمباکو یا گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ فَرَّمَ الولدُ: بچے کا نئے دانت نکالنا (عام زبان میں)۔ اَفْـرَمَ الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ الفَرْمَة جمع فَرَمات: گوشت، تمباکو وغیرہ کا چھوٹا ٹکڑا (عام زبان میں)۔ الأَفْرَم: گرے ہوئے دانت والا۔

۲۔ الـفَـرامِل: (انگریزی الاصل لفظ)۔ جو فَرَان جمع فَـرَانـات بھی کہلاتا ہے، جو فرانسیسی لفظ ہے: بریک (گاڑیوں کو آہستہ یا کھڑا کرنے کا آلہ)۔

۳۔ الـفَرمان جمع فَرامِين: شاہی فرمان (حکام کے لئے) (فارسی لفظ)۔

○ فَـرَمَ ـفَـرْمًا هُ: (گوشت، تمباکو) کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، (گوشت کا) قیمہ کرنا، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرنا۔ فَرَّمَ بمعنی فَرَمَ۔ مِفْرَمَة: قیمہ بنانے والی مشین۔ مَفْرُوم۔ دخانٌ مَفْرُوم: اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تمباکو۔ لحمٌ مَفْرُوم: (گوشت کا) قیمہ۔ فُـرْمَة جمع فُـرَم: سانچہ، قالب۔ فَـرَمْبُـواز: رس بھری (raspberry)۔ فِـرْمَسُـون: فری میسن free mason۔ (خفیہ جماعت (دراصل مسیحی) کا رکن)۔ فَـرْمَلَة جمع فَرامِل: (گاڑی وغیرہ کا) بریک۔ فَـرْمَلَ سيارةً: کار کو بریک لگانا (آہستہ کرنا، کھڑا کرنا)۔ فَرْمَلْجي جمع فرملجية: بریک لگانے والا brake man۔ فَرْمُوزا: فارموسا Formosa۔ ایک ملک کا نام۔

فرن: اـ الـفُـرْن جمع اَفْران: تندور کے علاوہ وہ جگہ جو روٹی پکانے کے لئے بنائی گئی ہو (لاطینی لفظ)۔ الفَرّان: نانبائی، منتظم مطبخ، روٹی پکانے والا۔ الفارِقة: روٹی پکانے والی۔ الـفُـرْنـي (واحد فُرْنِيَّة): موٹی گول روٹی، سخت بدن کا آدمی۔

۲۔ الـفِـرِنْـد جمع فَرَانِد: انار کا دانہ، تلوار، جوہر تلوار، تلوار کے نقش و نگار۔ کہا جاتا ہے: سیفٌ فِرِنْدٌ: ہے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مثل تلوار، ایک قسم کا کپڑا (یہ فارسی لفظ برند کا معرب ہے)۔ الإفرند جمع فرندات: جوہرِ تلوار، تلوار کے نقش و نگار۔

۳۔ تفرنس الرجل: فرانسیسی ہو جانا، فرانسیسی اخلاق و اطوار اختیار کر لینا، فرانسیسی عادات اختیار کر لینا۔ صفت: مُتفرنس جمع متفرنسون۔

۴۔ الفرنك جمع فرنكات: ایک معروف سکہ franc

○ فُرن جمع افران: تنور oven, baking oven۔ فرّان: بھٹیارا، نان بائی، بیکری والا baker۔

تفرنج: یوروپین ہو جانا، یوروپی اطوار اختیار کرنا، یورپینوں کی نقالی کرنا۔ الإفرنج: یورپی لوگ۔ بلادُ الافرنج: یوروپ۔ افرنجی: یورپین۔ الأفرنجی: آتشک، گرمی (syphilis)۔ فرنجة: فرانکوں کی سرزمین، یوروپ۔ تفرنج: یوروپی رنگ میں رنگا ہونا، یورپینوں کی نقالی، تقلید۔ مُتفرنج: یورپین بنا ہوا۔ فِرِند: نہایت خوشنما کاریگری والی تلوار۔ فرندة جمع فرندات: برآمدہ (veranda)، بیرونی ڈیوڑھی، پیش دہلیز (porch)۔ فرنس فرنسة ہ: کو فرانسیسی بنانا، کو فرانسیسی تہذیب کا رنگ چڑھانا۔ تفرنس: فرانسیسی ہو جانا، فرانسیسیوں کی نقالی کرنا۔ فرنسا و فرنسة: فرانس France۔ فرنسی: فرانسیسی (جمع فرنسیون): ایک فرانسیسی۔ فرنساوی و فرنسوی: فرانسیسی۔ الفرنسیس: فرانسیسی The French۔

فره: ۱۔ فرِه ۔ فرهًا: خوش ہونا، اکڑنا۔ صفت: فرِه۔ فرُه ۔ فراهةً و فروهةً و فراهيةً: ماہر ہونا، حاذق ہونا، خوش ہونا، سبک ہونا صفت: فارِه۔ افره الرجل: چست و چالاک غلام حاصل کرنا۔ استفره الدوابّ: عمدہ جانور چھانٹنا۔ الفارهُ: چست، پھرتیلا، تیز۔ الفارهة جمع فوارِه و فُرّه: الفارہ کا مونث: خوبصورت جوان لڑکی۔ الفراهة و الفراهية و الفروهة: مہارت، حسن، جمال، خوبصورتی، زندہ دلی، جہارت، کاریگری۔ الأفره: کھلا ماہر، چالاک۔

۲۔ الفارهُ: خوب کھانے والا۔ کہا جاتا ہے: رجل فارهٌ و جاریةٌ فارهةٌ جمع فُرهةٌ و فُرَّهةٌ و فُرُهةٌ و فَرَهةٌ و فُرُهٌ: خوب کھانے والا آدمی یا لڑکی۔

۳۔ فرهد: پھولنا۔ ت نفسُهُ: تنگ دل ہونا۔ تفرهد الغلام: لڑکے کا موٹا ہونا۔ الفُرهُد و الفُرهَد: گول مٹول خوبصورت لڑکا۔ الفُرهُود: گول مٹول خوبصورت لڑکا۔ جمع فراهيد (ح): بکری یا پہاڑی بکری کا بچہ۔

○ فرِه: زندہ دل، بشاش، شگفتہ مزاج، پھرتیلا، تیز۔ فراهة: زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، پھرتیلا پن، تیزی (جانور کی)، ہٹا کٹا ہونا۔ فارِه: زندہ دل، پھرتیلا، تیز (جانور) حسین، خوبصورت خوش انداز، ہٹا کٹا، موٹا تازہ، قوی ہیکل، بڑا۔

فرو: ۱۔ فرّى تفرية الجبّة: جبہ پر پوستین لگانا۔ افترى الفرو: پوستین پہننا۔ الفرو جمع فِراء: وہ پوستین جس کا اندرونی حصہ بعض جانوروں کی کھالوں سے تیار کیا جاتا ہے، جیسے خرگوش اور سمور۔ الفروة: بالوں سمیت سر کی کھال (کہا جاتا ہے: ضربه على أمّ فروته: اس نے اس کی کھوپڑی پر مارا) عورت کا سربند، اونٹ کے بالوں سے تیار کردہ چادر، تاج مال و دولت، فقیر کی جھولی۔ جمع فِراء۔ الفرّاء: پوستین ساز۔

۲۔ فروز فروزةً: مرجانا۔

○ فرو: (اسم جمع واحد فروة) جمع فِراء: پوستین، پشم کھال، پشم سمیت کھال، چمڑا۔ فروة الرأس: کھوپڑی۔ ابو فروة: شاہ بلوط۔ فرّاء: پوستین بنانے والا، پشم بنانے والا۔

فری: ۱۔ فرى ۔ فريًا الارضَ: زمین میں چلنا، زمین قطع کرنا۔ البرقُ: بجلی کا آسمان میں چمکنا۔ و فرّى الشيءَ: کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا۔ افرى الشيءَ: کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، درست کرنا۔ تفرّى تفرّيًا و انفرى انفراءً: پھٹنا۔ کہا جاتا ہے: تفرّت الارضُ بالعيون: زمین میں چشمے پھوٹ نکلے۔ الفرِيّ مؤنث فرِيّة: پھٹا ہوا۔ و الفرِيّ: بڑا ڈول۔ کہا جاتا ہے: الفرِيّة الفرِيّة: جلدی جلدی۔

۲۔ فرى ۔ فريًا عليه الكذبَ: کے خلاف جھوٹ گھڑنا۔ المزادةَ: توشہ دان بنانا۔ ب افتراءً عليه الكذبَ: پر جھوٹ باندھنا۔ فرية: فری سے اسم مرة۔ الفرية جمع فِرًى: جھوٹ گھڑا ہوا جھوٹ۔ الفرى: گھڑی ہوئی اور بناوٹی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے: هذا أفرى الفِرى: یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ جھوٹوں کا جھوٹ ہے۔

۳۔ فرِي ۔ فرًى: دہشت زدہ اور متحیر ہونا۔ الفرا: عجیب شیء۔ الفرِيّ: عجیب، تعجب خیز۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يفري الفرِيّ: فلاں شخص تعجب خیز اور حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: لقد جئت شيئًا فريًّا: یعنی تم نے ایسا کام کیا، جس سے حیرت و تعجب ہوتا ہے۔

۴۔ افرى فلانًا: کو ملامت کرنا۔

۵۔ الفرا: بزدل۔ الفرية: شوروغل۔ الفرية جمع فِرًى: تہمت۔

○ فرى ۔ فريًا ہ: کو لمبائی کے رخ پھاڑنا، کاٹنا، کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کا قیمہ کرنا۔ علی ہ: کے خلاف کوئی جھوٹ اختراع کرنا، گھڑنا، یا بنانا۔ كذبا علی: کے خلاف جھوٹ گھڑنا یا اختراع کرنا۔ فرّى ہ: کو لمبائی کے رخ پھاڑنا، کاٹنا۔ افرى بمعنى فرّى۔ افترى على ہ: کے خلاف جھوٹ اختراع کرنا، گھڑنا یا بنانا۔ علی: پر بہتان باندھنا، سے ناانصافی کرنا، کے خلاف ہتک عزت والی تحریر شائع کرنا، کے خلاف طوفان باندھنا، کی بدگوئی کرنا، کو بدنام کرنا، کو متہم کرنا۔ فرية جمع فِرًى: جھوٹ، دروغ، کذب، بہتان، تہمت، اتہام، افتراء۔ اتى (یا جاء) شيئًا فريًّا: ایسا کام کرنا جو کبھی سننے میں نہ آیا ہو، ایسا کام کرنا جس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ مِفراة و مِفرَمة: قیمہ کرنے والی مشین۔ افتراء: جھوٹ دروغ، کذب، بہتان، تہمت، اتہام۔ مُفترٍ: بہتان اور تہمت لگانے والا، بدگوئی کرنے والا، بدنام کرنے والا۔ مُفتريات: جھوٹی باتیں، تہمتیں، اتہامات۔

فز: ۱۔ فزّ ۔ فزًّا الظبيُ: ہرن کا گھبرانا۔ ہُ: کے ہوش اڑا دینا، کو حواس باختہ، پریشان کرنا۔ ہ عن مكانه: کو حواس باختہ اور پریشان کرنا، کو اس کی جگہ سے نکال دینا۔ فلانٌ (عند العامة): اچھلنا، کودنا۔ فزازةً و فزوزةً: مضطرب ہونا، بھڑک اٹھنا۔ افزّہ: کو حواس باختہ کر دینا، پریشان کرنا۔ استفزّہُ: کو مضطرب کرنا، پریشان کرنا، کو اس کے گھر سے نکالنا اور پریشان کرنا۔ ہُ الخوفُ: کو خوف کا بے خود کر دینا۔ ہُ من الشيءِ: کو سے نکال دینا۔ الفزّ (مص) جمع افزاز: ہلکا پھلکا آدمی (ح): نیل گائے کا بچہ۔ الفزّة: اضطرابی حالت میں کودنا۔ کہا جاتا ہے: قعد مستفزًّا: وہ غیر مطمئن ہو کر بیٹھا۔

۲۔ فزّ ۔ فزًّا ہ: کو دھوکا دے کر اس پر غالب ہونا۔ افتزّ عليه: پر غالب ہونا۔ تفازّ الرجلان: ایک دوسرے کے مقابلہ کیلئے میدان میں آنا۔ استفزّہ: کو قتل کر دینا۔

۳۔ فزّ ۔ فزًّا: اکیلا ہونا۔ عنه: سے جدا ہونا، مڑ جانا۔

۴۔ فزّ ۔ فزيزًا الجرحُ: زخم سے خون و پیپ بہنا۔

○ فزّ ۔ فزًّا: اچھل پڑنا، چونک اٹھنا، بدکنا، بھڑکنا، بھاگ نکلنا، ڈرا ہوا ہونا یا ہو جانا، دہشت زدہ ہونا یا ہو جانا، حواس باختہ ہونا یا ہو جانا۔ افزّ ہ/ ہ: کو ڈرانا، ڈرا دینا، چوکس کرنا، دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہ/ہ عن: کو سے خائف کرنا، سے ڈرا کر بھگا دینا۔ تفزّز: بے چین و مضطرب ہونا۔ اِستَفزَّہٗ: کو بے چینی یا اشتعال سے بھر دینا، کو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، مشتعل کرنا، میں ہیجان پیدا کرنا، کو بے چین کرنا، میں اضطراب پیدا کرنا، کو جوش میں لانا، کو اکسانا، ابھارنا، شہ دینا، برافروختہ کرنا۔ — ہٗ کسی واقعہ کا باعث بننا۔ — ہ عن: کو حواس باختہ کر کے سے نکال دینا۔ — ہ من: کو جوش میں لا کر سے نکالنا، کو سے اٹھانا۔ فَزَّۃ: بدکنا، بھڑکنا، چونک اٹھنا، خوف سے اچھل پڑنا، فرار، تیز حرکت۔ استفزاز جمع استفزازات: ترغیب، انگیخت، تحریک، اضطراب و اشتعال، اشتعال انگیزی، اشتعال انگیز باتیں۔ اِستِفزَازِی: اضطراب و ہیجان انگیز، اکسانے والی، شہ دینے والی (بات وغیرہ) اشتعال انگیز، ہجوم کو بھڑکانے والی، آگ لگانے والی (بات، واقعہ وغیرہ)۔

فزر: ۱۔ فَزَرَ ـُ فَزْرًا ہٗ: کو پھاڑنا، فتح کرنا، توڑنا۔ — ہٗ بالعصا: کی پیٹھ پر لاٹھی سے مارنا۔ — الشيءَ من الشيءِ: ایک کو دوسری چیز سے الگ کرنا۔ ـ فُزُورًا: پھٹنا۔ فَزَّرَ و افزَرَ الشيءَ: کو ریزہ ریزہ کر دینا۔ — تفزّر و انفزر: پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ — الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ الفِزْرُ: بکریوں کا چھوٹا سا ریوڑ۔ کہا گیا ہے کہ دس سے چالیس تک بکریوں کا ریوڑ۔ ران کے اوپر کے حصہ کی غدود۔ الفَزْرُ: شگاف و درزیں، دراڑیں، گویا کہ فِزْرَۃ کی جمع ہو۔ الفُزُور: درزیں، دراڑیں، شگاف۔ الفُزْرَۃ جمع فُزَر: کشادہ راستہ۔ الفَازِرُ (فا): طویل کشادہ راستہ۔ الفازِرَۃ: فارز کا مونث: ریگستان کا راستہ۔

۲۔ فَزِرَ ـَ فَزَرًا: کی پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ پڑ جانا۔ صفت: افزر۔ الفُزْرَۃ جمع فُزَر: پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ۔ الأفزر: جس کی پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ پڑ گئی ہو۔ الفزراء جمع فُزْر: الأفزر کا مؤنث۔ المُفزُور (مفع): بمعنی الأفزر، کبڑا۔

۳۔ الفِزرُ (ح): بکری کا بچہ، ببر شیر کا بچہ، چڑ۔ الفَازِر (ح): کالی چیونٹی جس میں سرخی ہو۔ الفزارۃ: چیتے کی مادہ (یہ مؤنث من غیر لفظہٖ ہے)۔ الفَزْراء جمع فُزْر: پر گوشت عورت، قریب البلوغ لڑکی۔

○ فُزُورَۃ جمع فوازیر: معما، پہیلی، لغز۔

فزع: ۱۔ فَزَعَ ـَ فَزْعًا و فِزعًا منه: سے خوف کرنا۔ فَزِعَ ـَ فَزَعًا: دہشت زدہ ہونا، خائف ہونا۔ افزَعَ ہٗ: کو خوفزدہ کرنا، کا خوف دور کرنا (ضد)۔ — عنه: سے گھبراہٹ زائل کر دینا۔ الفزع (ص): گھبراہٹ۔ الفُزْعَۃ: وہ شخص جس سے لوگ گھبرائیں۔ الفُزَعَۃ: جو شخص لوگوں سے بہت گھبراتا ہو۔ الفَازِع جمع فَزَعَۃ و الفزع و المُفازِع: خائف، ترساں۔ الفَزَّاعۃ: بہت گھبرانے والا وہ شخص جو لوگوں کو بہت گھبرا دے۔ دھوکا (کاٹھ کا جعلی آدمی جسے کھیتوں میں جانوروں کو ڈرانے کے لئے نصب کیا جاتا ہے)۔ عام لوگ اسے فِزّیعۃ کہتے ہیں۔ المُفزَّع: بزدل، بہادر (ضد)۔

۲۔ فَزِعَ ـَ فَزَعًا اليه: سے فریاد چاہنا، کی پناہ لینا۔ — الرجلَ: کی فریادرسی کرنا، کی مدد کرنا۔ افزَعَ القوم: کی فریادرسی کرنا۔ الفَزَع: فریادرسی۔ الفَازِع جمع فزعۃ و الفزع و المفازع: فریادی۔ المَفزَع و المَفزَعَۃ: پناہ گاہ، جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مَفزَعٌ او مَفزَعۃٌ للناس: فلاں شخص لوگوں کیلئے جائے پناہ ہے۔ یعنی جب ان کو اچانک کوئی مہم درپیش ہو جاتی ہے تو اس کے پاس گھبرائے ہوئے آتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں۔ (یہ دونوں لفظ واحد جمع مذکر اور مونث کے لئے آتے ہیں)۔

۳۔ فَزِعَ ـَ فَزَعًا من نومِه: نیند سے اٹھ کھڑا ہونا۔ — فَزَعًا لمجيءِ فلان: کے آنے کی وجہ سے تیار ہونا۔ افزَعَ ہٗ من نومه: کو نیند سے جگانا۔

○ فَزِعَ ـَ فَزَعًا و فَزْعًا و فِزعًا من: سے خائف ہونا، ڈرنا۔ — من/ل: سے ڈرا ہوا ہونا، دہشت زدہ ہونا، گھبرا جانا۔ فَزِعَ ـَ فزعًا الی: کے پاس پناہ لینا، کی طرف فرار ہو جانا، کے پاس پناہ کا طالب ہونا۔ فَزَّعَ ہٗ: کو خوفزدہ کرنا، گھبرا دینا، خائف کرنا، ڈرانا، دہشت زدہ کرنا، حواس باختہ۔ افزَعَ ہٗ: کو دہشت زدہ کرنا، حواس باختہ کرنا، ڈرانا۔ تفزَّعَ: دہشت زدہ ہو جانا، حواس بختہ ہو جانا، ڈر جانا۔ تَفَزَّعَ من نومه: نیند سے بیدار ہو جانا۔ فَزَع جمع افزاع: خوف، سخت خوف، دہشت، ہیبت، اندیشہ، خوف، کھٹکا، ہول، پریشانی، سراسیمگی، یاس، خوف، استعجاب، خوف و ہراس، بیجا خوف و ہراس کی لہر۔ فَزِع و فزعان: دہشت زدہ، خوف زدہ، ڈرا ہوا، سہما ہوا، بزدل، ڈرپوک، بودا۔ فزّاعۃ: خوف پیدا کرنے والا، کھیت کا اُچکا scarecrow۔ مَفزعۃ: کھیت کا اچکا۔ مَفزَعۃ و مفزع: جائے پناہ، گوشہ تنہائی، دامن، ملجا۔ مُفزِع: خوفناک، ہولناک، دہشتناک، دہشت انگیز۔ مُفزَع: ڈرا ہوا، دہشت زدہ، خوف زدہ، بدحواس، حواس باختہ، گھبرایا ہوا۔

فسّ: الفُسفُسُ و الفُسفاس جمع فَسَافِس و فَسَافِيس: احمق۔ (ن): ایک بدبودار پودا۔ الفَسَافِس (ح): کھٹمل۔ الفُسفُسَۃ (ن): دیکھو الفِصفِصَۃ۔ الفُسَیفُسَۃ (عند العامة): مہاسا، کیل۔ الفُسَیفِساء: سنگ مرمر وغیرہ کے رنگ برنگ کے چھوٹے ٹکڑے جن کو جوڑ کر مختلف شکلیں اور قسم قسم کی صورتیں بنا لیتے ہیں۔ پچّی کاری، پچّی کاری کا کام۔

فسا: ۱۔ فَسَا ـُ فَسْوًا ہٗ: کو لاٹھی سے مارنا۔ — و فَسًّا تفسِیئًا و تفسِئۃ الثوب: کپڑا پھاڑنا۔ تفسّأہٗ: کو لاٹھی سے مارنا۔ — الثوبُ: کپڑے کا پھٹ جانا اور بوسیدہ ہو جانا۔

۲۔ فَسَأَ ـَ فَسْأً ہٗ عن کذا: کو سے روکنا۔

۳۔ فَسِئَ ـَ فَسَأً: ابھرے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ ابھرے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت: افسأ مونث فَسْآء۔ تفاسأ تفاسُؤًا الرجلُ: پیٹھ اور سرین کو نکالنا، ظاہر کرنا۔

۴۔ تفسّأ المرض فيهم: بیماری کا لوگوں میں پھیل جانا۔

فست: ۱۔ الفُستُق و الفُستَق (ن): پستہ کا درخت۔ فُستُق العبيد: ایک پودا۔ اس کے بیج مزے سے کھائے جاتے ہیں اور ان سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ الفُستُقِی: پستہ رنگ کا۔

۲۔ الفُستَان ج فساتين و الفُسطَان جمع فساطين: عورتوں کا ایک لباس بمنزلہ قبا کے۔ (فارسی لفظ)۔

○ فُستان جمع فساتين: عورتوں کا ایک لباس۔ فراک، گون gown, frock۔

فسج: فَسَّجَ: پیشاب کرنے کے لئے ٹانگیں پھیلانا۔ افسَجَ عنه: کو ترک کر دینا۔

فسح: ۱۔ فَسَحَ ـَ فَسْحًا: کشادہ قدم رکھنا۔ ـ فَسْحًا و فُسُوحًا له في المجلس: کو مجلس میں جگہ دینا۔ فَسُحَ ـُ فَساحۃً المکانُ: جگہ کا وسیع ہونا۔ صفت: فَسِيح و فُساح و فُسُح اور مبالغہ کی زیادتی سے فُسُحم مبالغہ کے لئے۔ فَسَّحَ المکانَ: جگہ کو وسیع کرنا۔ فَسَّحَ له في المجلس: کیلئے مجلس میں جگہ پیدا کرنا، کو مجلس میں جگہ دینا۔ افسَحَ المکانَ: جگہ کا وسیع ہونا۔ تفسَّحَ: وسیع ہونا۔ — له: کیلئے کشادگی کرنا۔ — القوم في المجلس و تفاسحوا: مجلس میں کھل کر بیٹھنا۔ اِنفسَحَ صدرہٗ: کا سینہ کھلنا، کشادہ دل ہونا۔ — المکانُ: جگہ کا کشادہ ہونا۔ — طرفُہٗ: دور تک دیکھنا۔ الفُسحَۃ جمع فُسَح: گنجائش۔ مکانوں وغیرہ کے درمیان کھلی جگہ۔ الفَيسَحَى: دونوں قدموں کے درمیان فاصلے کا بعید ہونا۔ کہا جاتا ہے: هو يمشي الفيسحى: يعنی۔۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کشادہ قدم رکھ کر چلتا ہے۔

۲۔فَسَحَ ـَفَسْحًا له فی السفر: کو پروانۂ راہداری دینا۔ الفَسْح (مص): سفر کے لئے اجازت نامہ، پاسپورٹ وغیرہ وغیرہ۔

○ فَسُحَ ـُفُسْحَةً و فَسَاحَةً: وسیع، کھلا، کشادہ، فراخ یا کافی جگہ (یا گنجائش) والا ہونا یا ہوجانا۔ فَسَحَ ـَ فَسْحًا ل فی/ہ: کے لئے میں جگہ بنانا، کیلئے میں جگہ صاف کرنا۔ فَسَّحَ ہ: کو چوڑا کرنا، کھلا کرنا، کشادہ کرنا، فراخ کرنا، وسیع کرنا، چوڑا کرنا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، پھیلانا۔ــــ له: کے لئے جگہ بنانا، کیلئے جگہ صاف کرنا۔ فَسَّحَ مجالا له: کیلئے جگہ بنانا، کو پوری آزادی دینا، کو موقع فراہم کرنا۔ فَسَّحَ له الطریقَ: کیلئے راستہ کھولنا، کے لئے راہ ہموار کرنا۔ أَفْسَحَ ہ ل: کو کیلئے کھول دینا۔ تَفَسَّحَ وسیع، فراخ، کشادہ، یا گنجائش والا ہونا، سیر کرنا، چہل قدمی کرنا۔ اِنْفَسَحَ کھلا، وسیع، فراخ کشادہ، گنجائش والا ہونا پھیلنا، بڑھنا، چوڑا ہونا، وقت کا خالی یا بہت ہونا۔ اِنْفَسَحَتْ لی الاوقاتُ: میرے پاس کافی وقت تھا۔ فَسَحَة جمع فَسَحات: پیش دالان، ڈیوڑھی، مکانوں کے درمیان کھلی جگہ۔ فسیح: چوڑا بہت کشادہ، وسیع، فراخ، کافی جگہ یا گنجائش والا، بڑا۔ اِنفساح: چوڑائی، کشادگی، فراخی، وسعت، پھیلاؤ۔ مُنْفَسَحَ: چوڑائی، کشادگی، فراخی، ہموار سطح، سطح۔ مازالَ فی الوقت فُسْحَةٌ: ابھی وقت ہے۔

فسخ: ا۔فَسِخَ ـَفَسْخًا: جاہل ہونا، ضعیف العقل ہونا۔ــــ رأیَ فلانٍ: کی رائے کو فاسد کردینا۔ــــ الرائُ: رائے کا فاسد ہونا۔ــــ الامرَ او العقدَ: بات یا عقد کو توڑ دینا۔ فَسِخَ ـَفَسْخًا الرأیُ: رائے کا فاسد ہونا۔ فاسَخَہُ العقدَ او البیعَ و تَفَاسَخَا العقدَ او البیعَ: سے عقد یا بیع کے توڑنے پر متفق ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَفَاسَخَت الاقاوِیلُ: اقوال متناقض ہوگئے۔ اِنْفَسَخَ العزمُ او العقدُ: ارادہ یا معاملہ کا ٹوٹ جانا۔ الفَسْخ و الفَسِیخ: کمزور عقل یا بدن والا۔ وہ شخص جو اپنی ضرورت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو اور اپنے امور کا صحیح انتظام نہ کرسکے۔ وہ کمزور شخص جس کا ارادہ شدت کے وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ الفَسْخَة: فسخ کا اسم مرہ۔ رجُلٌ فُسْخَةٌ: کمزور عقل یا جسم والا آدمی۔

۲۔فَسَخَ ـَفَسْخًا العُودَ او المَفْصَلَ: لکڑی یا جوڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ــــ الثوبَ عنه: اس سے کپڑا اتار کر پھینک دینا۔ــــ الشیءَ: کو جدا جدا کرنا۔ فَسَّخَ ہُ: کو فسخ کرنے میں مبالغہ کرنا۔ تَفَسَّخَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ــــ الشَعَرُ عن الجلد: بالوں کا کھال سے جھڑ جانا، گر جانا (یہ میت کے لئے خاص ہے)۔ الفَسْخ (عند غلاۃ اصحاب التناسخ): اواگون کے ماننے والوں کے کے نزدیک: انسان کے جسم سے روح ناطقہ کا نکل کر حشرات میں چلا جانا یا دھاتوں اور عناصر میں منتقل ہو جانا، تناسخ یعنی اواگون۔ الفسخة: فسخ شدہ کا ایک ٹکڑا۔ الفسیخ (ط): نمک لگا کر محفوظ کی ہوئی مچھلی۔

۳۔أَفْسَخَ الکتابَ: کو بھول جانا۔

○ فَسَخَ ـَفَسْخًا ہ: (جوڑ) الگ کردینا؛ کو جدا کرنا، منقطع کرنا، کاٹ ڈالنا، پھاڑنا، چیرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا؛ کو منسوخ کرنا، ختم کرنا، کالعدم قرار دینا، فسخ کرنا، چھوڑنا، چھوڑ دینا۔ فَسِخَ ـَفَسَخًا: رنگ اڑنا، رنگ پھیکا پڑ جانا۔ فَسَّخَ ہ: کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھاڑ کر الگ کر دینا، چیرنا، پھاڑنا، (مچھلی) کو نمک لگانا۔ تَفَسَّخَ: ٹکڑے ٹکڑے ہوجانا، الگ ہو جانا، ختم ہونا۔ اِنْفَسَخَ: منسوخ ہونا، فسخ ہونا، کالعدم ہونا، خالی ہونا۔ فَسْخ: منسوخی، فسخ، تنسیخ، خاتمہ، خالی ہونا۔ فَسْخی: منسوخی سے متعلق۔ فَسْخَة: چھپٹی، چھیلن، ٹکڑا، ریزہ، قاش۔ فسیخ: چھوٹی نمک لگی مچھلی۔ مُتَفَسِّخ: ناخلف، کپوت، شرافت اور اخلاقی لحاظ سے گرا ہوا، بگڑا ہوا۔

فسد: فَسَدَ ـُ و فَسُدَ ـُ فَسَادًا و فُسُودًا: خراب ہونا، بگڑ جانا۔ یہ صَلُحَ کی ضد ہے۔ صفت فَسِید جمع فَسْدَی و فَاسِد۔ فَسَّدَ و أَفْسَدَہُ: کو خراب کرنا، بگاڑنا۔ فَاسَدَ القومَ: قوم کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر لوگوں کا اس پر بگڑنا۔ الفساد (مص): لہو ولعب، کھیل کود، ظلماً مال لینا۔ المَفْسَدَة جمع مَفَاسِد: منبع فساد یا سبب فساد۔ تَفَاسَدَ القومُ: قطع رحمی کرنا اور آپس میں مخالفت و دشمنی ہو جانا۔ اِسْتَفْسَدَ: فساد چاہنا۔ یہ اِسْتَصْلَحَ کی ضد ہے۔ اِسْتَفْسَدَ القومَ: قوم سے بدمعاملگی کرکے اپنا مخالف و دشمن بنالینا۔

○ فَسَدَ ـُفَسَادًا و فُسُودًا: برا ہونا یا ہوجانا، گلا سڑا ہونا یا ہو جانا، خراب اور بگڑا ہوا ہونا یا ہو جانا، خراب اور بگڑی ہوئی عادتوں والا ہونا، آوارہ ہونا یا ہو جانا، شرمناک عادت والا ہونا یا ہوجانا، گنہگار، فاسق، بداعمال، یا بدطینت ہونا یا ہوجانا، بدچلن، بداطوار یا بدعنوان ہونا یا ہوجانا، بدکار اور فاجر ہونا یا ہوجانا، کمزور ہونا یا ہوجانا، بری یا غلط راہ پر ڈالا ہوا ہونا یا ہوجانا، خالی ہونا، بیکار ہونا یا ہوجانا، ناکارہ ہونا یا ہوجانا، غلط ہونا، جھوٹا ہونا۔ فَسَّدَ ہ/ ہ: کو بگاڑنا، خراب کرنا، تباہ کرنا، کے اخلاق بگاڑنا، کو بداخلاق بنانا، پست اخلاق کرنا؛ کو نگاہوں سے گرانا، ذلیل کرنا، کو دھبا لگانا، داغ لگانا، کلنک کا ٹیکا لگانا، کی چمک ختم کرنا، کو داغدار کرنا، کو میلا کرنا، کی بے حرمتی کرنا۔ أَفْسَدَ ہ/ ہ: کو بگاڑنا۔ــــ ہ/علی: کا منصوبہ وغیرہ خراب کرنا۔ــــ ہ/ ہ: کو بگاڑنا، خراب کرنا، کا غلط یا بے جا استعمال کرنا، کو غلط راستے پر ڈالنا، کو بری راہ پر لگانا، کا اخلاق بگاڑنا، کو بددل کردینا یا بنا دینا، کی حالت پست کرنا۔ــــ ہ: کو بگاڑنا، خراب کرنا، کا ستیاناس کرنا، کی شکل بگاڑنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کی قیمت گرانا یا گھٹانا، کی کم قدری کرنا۔ــــ ہ علی: کے لئے کی قدر و قیمت گھٹانا، کو بے وقعت کرنا، کے لئے کو ذلیل کرنا۔ــــ ہ: کو کمزور کرنا، کی جڑیں کھوکھلی کرنا، کو درہم برہم کرنا، الٹ دینا، میں گڑبڑ مچانا، کو تباہ کرنا، برباد کرنا، کو ناکام بنا دینا، کو بے اثر کرنا۔ــــ ہ علی: کو سے برگشتہ کرنا، کو سے منحرف کرنا، کو سے بیگانہ کرنا۔ــــ علی ہ: کو سے برگشتہ کرنا، کو سے ورغلا یا پھسلا کر لیجانا۔ــــ بین: کے مابین نااتفاقی، ان بن یا نزاع، یا اختلاف رائے بھڑکانا یا نااتفاقی اخلاف رائے وغیرہ کا بیج بونا۔ أَفْسَدَ: برا یا بد کام کرنا، بدطینتی سے کام یا عمل کرنا، نقصان کا باعث بننا۔ أَفْسَدَ علیه امرَہُ: کے ساتھ بری چال چلنا۔ اِنْفَسَدَ: بمعنی فَسَدَ۔ فَسَاد: سڑاند، بگاڑ، خرابی، بدعنوانی، رشوت ستانی، بوسیدگی، تباہی، تنزلی، گلنا، سڑنا، تحلیل، فسق و فجور، سیاہ کاری، بدکاری، بداعمالی برائی، بدطینتی، ضرر رسانی، شرارت، بے انصافی، فحاشی، بداخلاقی، کمزوری، بے راہ روی، کجروی، غلطی (کسی قانونی معاملہ کی) ناتمامی، ادھورا پن۔ مَفْسَدَة جمع مَفَاسِد: بدعنوانی یا برائی کا سبب رسوا کن کام وحشیانہ کارروائی۔ مَفَاسِد: گندی چالیں، کینہ جو اعمال، قانونی حیلہ جوئیاں، حیلہ بازیاں یا استدلال۔ فی المَصْلِحَةِ و المَفْسَدَة: اچھے اور برے وقتوں میں، بہتر یا بدتر کیلئے دور فَاسِد: برائی کا چکر، استدلال دوری۔ اِفساد: ناکام بنانا، جڑیں کھوکھلی کرنا، تباہ کاری کرنا۔ فَاسِد جمع فَسْدَی: برا، گلا سڑا، بگڑا ہوا، بوسیدہ۔ فاسق فاجر، بدکار، بدچلن، بداطوار، بدعنوان، آوارہ، بد اعمال، گنہگار، بدطینت، شیطان، غیر اخلاقی، خالی، ناکارہ، بے کار، غلط، جھوٹا، نامکمل (قانونی سودا، مکالمہ)۔

فسر: فَسَرَ ـِفَسْرًا الامرَ: کو واضح کرنا، نرم کرنا۔ــــ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

المُغَطَّى: ڈھکی ہوئی چیز کو کھولنا۔۔۔۔ فَسْراً و
تَفْسِرَةَ الطبيبُ: طبیب کا مریض کے قارورہ کو دیکھ کر اس کا حال معلوم کرنا۔فَسَّرَهُ: کو واضح کرنا، ظاہر کرنا۔تَفَسَّرَ و استفسر فلاناً عن الامر واستفسرهُ الامرَ: کو (بات وغیرہ) واضح کرنے کو کہنا۔التَّفْسِرَة (مص): مریض کا پیشاب جو اس کی بیماری کی تشخیص کے لئے ہو۔ قارورہ (لمبی گردن کی بوتل) جس میں مریض کا پیشاب لیجا کر تشخیص مرض کے لئے ڈاکٹر کو پیش کیا جاتا ہے) اسے دلیل بھی کہتے ہیں۔تَفْسِرَةُ الشيء: ہر وہ چیز جس سے استدلال کیا جائے۔التَّفْسِير (مص) جمع تَفَاسِير: تاویل، پردہ ہٹانا، وضاحت، بیان، تشریح۔حَرفَا التفسير: أَيْ و أَنْ: اَیْ سے غیر واضح کی تفسیر کی جاتی ہے۔جیسے: هٰذا عَسْجَد أي ذَهَبٌ: یہ عسجد یعنی سونا ہے۔أَنْ سے قول کے معنی اور مراد کی تفسیر کی جاتی ہے۔ جیسے: نَادَيْتُكَ أن افْعَلْ كذا: میری نداء اور پکار کا مقصد تجھے اس کام کے کرنے کا حکم دینا تھا۔

○ فَسَّرَ هُ: کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا، توجیہ کرنا، کی تفسیر کرنا، کو واضح کرنا، کی توضیح کرنا، کی مراد سمجھانا، ظاہر کرنا، سے مراد لینا، کا مطلب بیان کرنا، کا ترجمہ کرنا، پر رائے زنی کرنا۔تَفَسَّرَ: واضح ہونا، کی وضاحت ہونا، کا مطلب بیان کیا جانا وغیرہ (دیکھئے فَسَّرَ) نیز: تَفَسَّرَ ب: میں کی وضاحت یا تشریح ہونا، کیساتھ، یا سے قابل توجیہ ہونا، قابل وضاحت ہونا۔اِسْتَفْسَرَ ہ ہ: کو کی وضاحت کرنے کے لئے کہنا، سے کے بارے میں دریافت کرنا، کو کے بارے میں پوچھنا۔۔۔۔ عن: کی تشریح طلب کرنا۔تفسير جمع تفاسير: تشریح، توضیح، بیان، وضاحت، مطلب، مفہوم، ترجمانی، شرح، تفسیر (خصوصاً قرآن مجید کی)۔ تَفْسِيرِي: توضیحی، واضح کرنے والا۔مُفَسِّر: مفسر

فسط: ۱۔الفُسَّاط و الفِسْطاط جمع فَسَاطيط: اون کا خیمہ۔الفُسطاط جمع فَسَاطِيط: خیمہ، اون کا خیمہ، قدیم مصر کا نام۔الفَسِيط واحد فَسِيطَة: ناخن کا تراشہ۔

۲۔الفُسْطان: دیکھو فستان۔

○ فُسْطاط و فِسْطاط جمع فساطيط: بالوں کے کپڑے سے بنا ہوا (بڑا) خیمہ، خیمہ، تماشائی خانہ، شہ نشین، سراپردہ، چتر، سائبان۔الفُسْطَاط: آج کے قاہرہ کے جنوب میں قدیم اسلامی شہر۔فُسْطان جمع فساطين: بمعنی فستان۔ فُسْفَات: فاسفیٹ(phosphate)۔فَسْفَرَ و تَفَسْفَرَ: ضوافگن ہونا۔to phosphoresce۔فُسْفُور: فاسفورس(phosphorus)۔فُسْفُس: (اسم جنس واحد فُسْفُسَة) جمع فَسَافِس: کھٹمل(bedbug)۔ فُسْفُوسَة جمع فَسَافِيس: مہاسا، کیل۔

فسق: الفَسَقَ ـُـ و فَسُقَ ـِـ فِسْقًا و فُسُوقًا: حق و صلاح کے راستہ سے ہٹ جانا، بدکار ہونا۔صفت: فَاسِق جمع فَسَقَة و فُسَّاق و فَاسِقُون مونث فَاسِقَة جمع فاسِقَات و فَوَاسِق۔۔ و انْفَسَقَ الرطبُ عن قشره: پکی کھجور کا چھلکے سے باہر نکل آنا۔فَسَّقَ هُ: کی فسق کی طرف نسبت کرنا، کو گنہگار یا کافر قرار دینا۔۔۔ القاضي الشاهِدَ: قاضی کا گواہ کو نا قابل اعتبار قرار دینا۔الفُسَّق و الفَسَّاق و الفِسِّيق: ہمیشہ یا اکثر بدکاری کرنے والا۔کہا جاتا ہے: يا فُسَقُ: یعنی یایها الفاسق: (اے بدکار) یہ لفظ نداء کے لئے مخصوص ہے جیسے خُبَثُ۔فَسَاقِ: عورت کے لئے گالی ہے اور ندا ہی کی صورت میں مستعمل ہے۔کہا جاتا ہے: يا فَسَاقِ بمعني يا فاسِقَة: (اے بدکارہ)۔الفُوَيْسِقَة: فَاسِقَہ کی تصغیر (ح): چوہیا۔

۲۔الفِسْقِيَّة جمع فَسَاقِيّ: حوض، وضو کرنے کی جگہ، الفاسِقِيَّة: پگڑی باندھنے کا ایک مخصوص طریقہ۔کہا جاتا ہے: تَعَمَّم فلانٌ الفاسِقِيَّة: اس نے اس طرز پر عمامہ باندھا۔

○ فَسَقَ ـِـ فِسْقًا و فُسُوقًا و فَسُقَ ـُـ فِسْقًا و فُسُوقًا: صحیح راستے سے۔بھٹک جانا۔۔۔ عن: سے انحراف کرنا، سے بچھڑنا۔: غیر قانونی کام کرنا؛ گنہگار ہونا، بداخلاقی کرنا، بدچلنی کی زندگی گزارنا۔۔۔ ب: کے ساتھ زنا کرنا۔فَسَّقَ ہ: کو فاسق قرار دینا۔فِسق: گنہگاری، آوارگی، اخلاقی سیاہ کاری؛ بدکاری، فسق و فجور۔دُور الفِسق: چکلے، قحبہ خانے۔فُسُوق: ظلم، بے انصافی۔مَفْسَقَة جمع مَفَاسِق: چکلہ، قحبہ خانہ۔فاسِق: کافر، گنہگار، آوارہ، عیاش، بدچلن، اوباش، لفنگا، غیر منصفانہ، بیجا مداخلت کرنے والا، قانون شکن، مجرم، زانی، بدکار شوہر، نیکی اور انصاف کی قانونی ضروریات پوری نہ کرنے والا۔فِسْقِيَّة جمع فِسْقِيات و فَسَاقِي: کنواں، چشمہ۔

فسل: الفَسْلَ ـِـ فَسْلاً الصبيَ: بچہ کا دودھ چھڑانا۔ أَفْسَلَ و افْتَسَلَ الفَسِيلَةَ: کھجور کے پودے کو اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا۔الفَسْلُ (مص) جمع أَفْسُل و فُسُول و فِسَال و فُسْل و فُسُولة و فُسَلاء و افْسَال: ٹہنی یا ٹہنی کا ایک حصہ جو پودے سے کاٹ کر گاڑی جاتی ہے، تاکہ نیا پودا بن جائے۔ الفُسَالَة من الحديد و نحوه: لوہے وغیرہ کے وہ ریزے جو کوٹتے وقت زمین پر گر جاتے ہیں۔ الفَسِيلَة جمع فَسِيل و فَسَائِل و جج فُسْلان: کھجور کا پودا جو کہ ایک جگہ سے اکھیڑ کر دوسری جگہ لگایا جائے۔ ہر درخت کا قلم۔

۲۔فَسِلَ ـَـ و فَسُلَ ـُـ فَسَالَةً و فُسُولَةً و فُسِلَ فرومایہ ہونا، کمینہ ہونا، بے مروت ہونا۔الفَسْل جمع أَفْسُل و فُسُول و فِسَال و فُسْل و فُسُولة و فُسَلاء و أفْسَال: بے مروت وجرأت کمزور شخص۔ الفِسْل: احمق۔الفُسُولَة (مص): فتور۔ المَفْسُول: بے مروت وجرأت کمزور شخص۔

۳۔فَسَّلَ و أَفْسَلَ دَرَاهِمَهُ و متاعَهُ: دراہم اور سامان کو کھوٹا اور بے وقعت کرنا۔الفَسْل جمع أَفْسُل و فُسُول و فِسال و فُسْل و فُسُولة و فُسَلاء و أَفْسَال: ہر ردی چیز۔کہا جاتا ہے: دِرْهَمٌ فَسْلٌ و دَرَاهِمُ فُسُول: ردی درہم۔المَفْسُول: رذیل۔

○ فَسْل جمع فُسُول: کمینہ، کم اصل، بدذات، نیچ، منکسر المزاج، عاجز، رذیل، کھوٹا، دھوکا دینے والا، فریبی، مکار۔فُسُولة: کمینگی، کم اصلی، کمزوری۔ فَسِيلَة جمع فَسِيل و فَسَائِل: (کھجور کی) پنیری، ننھا پودا، نئی پودا، کونپل۔فسْلُيا بمعنی فصوليا۔ فَسْلَجَة: علم اعضاء، عضویات physiology۔ فَسْلَجِي: عضویاتی (physiologi (cal)۔

فسو: فَسَا ـُـ فُسَاءً: بلا آواز گوز کرنا۔تَفَاسَى: اخراج ریاح کے لئے سرین اٹھانا۔الفَسَاء (مص): بلا آواز کا گوز، پھسکی۔الفَسْوَة جمع فَسَوَات: ایک مرتبہ کی پھسکی۔فَسَوَاتُ الضِباع (ن): کماۃ کی ایک قسم۔کماۃ ایک گھاس ہے جس کو لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں اور بعض بلاد میں کھمبی بولتے ہیں۔ الفاسِيَة و الفاسِياء جمع فَوَاسٍ (ح): گبریلا۔ الفَسُوّ و الفَسَّاء: بہت گوز کرنے والا۔المَفْسَى: دبر، گوز نکلنے کی جگہ۔

فسی: الفسيولوجيا او الفيزيولوجيا: علم وظائف الاعضاء(Physiology)۔

○ فِسْيُولُوجِي: عضویاتی، ماہر عضویات (phsiological, physiologist)۔

فش: الفَشَّ ـُـ فَشًّا: ڈکار لینا، کمزور سا پھونکنا۔۔۔ الوَطْبَ: دودھ کے مشکیزہ کا سربند کھول کر بھری ہوئی ہوا نکالنا، مشکیزہ میں موجود مکھن نکالنا۔۔۔ الناقةَ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اونٹنی کو جلدی سے دوہنا۔۔۔ بینَ القومِ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنا۔۔۔ خُلقهُ فی فلانٍ پر غصہ کا اظہار کرنا جس کا سبب کوئی اور ہو، پر غصہ اتارنا۔ ۔۔ قلبَهٗ: دل میں موجود غصہ اور زجر و توبیخ کا اظہار کرنا (عام زبان میں)۔ فَشَّ السقاءُ: پانی کے مشکیزہ کا منہ کھل کر ہوا کا نکلنا۔ انْفَشَّ اللبنُ: دودھ جاری ہونا۔۔۔ت الریحُ: مشک وغیرہ کا منہ اور تسمہ کھلنے سے ہوا کا خارج ہونا۔ الفَشُوش: ٹپکنے والی مشک۔ الفَشِیْش: آواز۔ فشیشُ الأفعٰی: سانپ کی کھال کی آواز جو خشک زمین پر چلتے وقت نکلتی ہے۔

۲۔فَشَّ ۔فَشًّا البابَ: دروازہ کو کسی تدبیر یا حیلہ سے کنجی کے بغیر کھولنا۔

۳۔فَشَّ ۔فَشًّا الورمُ: سوج کا جاتا رہنا (عام زبان میں)۔ انفشّ الجرحُ: زخم کی سوجن میں سکون اور کمی ہونا۔۔۔ الرجلُ عن الامر: کسی کام میں سستی اور کاہلی کرنا۔۔۔ت علّةُ فلانٍ: کی بیماری کا زائل ہونا۔ الفَشّ (مص) و الفَشُوش: بے وقوف، کمزور رائے والا۔ الفَاشُوش: رائے اور ارادہ کا کمزور۔

۴۔الفَشّ و الفَشُوش: باطل پر فخر کرنیوالا، موٹا کمبل۔ (ن): خَرُّوب نام کا درخت، گندے پانی رسنے کی جگہیں۔ الفَشَّاش: جیب تراش، چابیوں کے بغیر دروازے کھولنے والا۔ رجلٌ مُنفَشُّ المنخرین: چھوٹے بانسہ اور پھولے ہوئے نتھنوں والا۔

۵۔فَشْفَش: کی رائے کا کمزور ہونا، بہت زیادہ جھوٹ بولنا، دوسرے کی بات یا چیز اپنی طرف منسوب کرنا صفت: فَشفَاش۔۔۔ ببولہ: پیشاب کرنا۔ الفَشْفَاش من النوق: وہ اونٹنی جس کا دودھ نکالتے وقت دودھ کی دھاریں اِدھر اُدھر پڑیں۔ الفَشْفَاشة: وہ چیز جس میں سختی نہ ہو، کہا جاتا ہے: تخرجُ الزُّبْدةُ فَشْفَاشةً: مکھن نرم نکلتا ہے۔

○ فَشَّ ۔فَشًّا ہ: سوجن وغیرہ کو بٹھا دینا۔۔۔ سوجن کا بیٹھ جانا، زائل ہو جانا۔ فَشَّ خُلقهُ (او غِلَّهُ) فی: پر غصہ کا اظہار کرنا۔ انْفَشَّ: سوجن وغیرہ کا زائل ہونا، بیٹھ جانا۔ فِشّة جمع فِشَش: پھیپھڑا۔ فشفاش: پھیپھڑا۔

فشج: فَشَجَ ۔فَشْجًا و فَشَّجَ و تَفَشَّجَ و انْفَشَجَ الرجلُ او البعیرُ: مرد یا اونٹ کا پیشاب کرنے کے لئے ٹانگیں پھیلانا۔

فشخ: فَشَخَ ۔فَشْخًا ہٗ: پر ظلم کرنا، بچوں کا کھیل میں کو طمانچہ مارنا۔۔۔ فی اللعب: کھیل میں جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: فَشَخَ علیہ: پر سے پھلانگنا۔ فَشَخ: ڈگ بھرنا (سریانی لفظ)۔ فَشَّخَ الرجلُ: اپنے جوڑوں کو ڈھیلا کرنا۔

○ فَشَخَ ۔فَشْخًا: ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہونا یا بیٹھنا، ڈگ بھرنا، لمبے لمبے قدم اٹھانا۔ فَشْخة جمع فَشَخات قدم، جست، لمبا قدم۔

فشط: إنْفَشَطَ العودُ: تر لکڑی کا ٹوٹ جانا۔ التفشیط عند العامة: باطل پر فخر۔ کہتے ہیں: فَشَّطَ فلانٌ: فلاں شخص نے ان باتوں پر فخر کیا جو اس کے پاس نہیں۔

فشع: فَشَعَ ۔فَشْعًا ت الذُّرةُ: چینا کے اطراف کا خشک ہونا۔ الفُشَاع و الفُشَّاع (ن): ایک قسم کی بیل جس کی جڑوں سے بعض ادویہ بنائی جاتی ہیں۔

فشغ: افْتَشَغَ ۔فَشْغًا ہٗ: کو بلند ہو کر ڈھانپ لینا۔۔۔ الشیءُ: وسیع ہونا، پھیلنا۔۔۔ہٗ بالسوط: پر کوڑا لے کر چڑھ جانا صفت: فَاشِغٌ م فَاشِغة۔ فَشَّغَ بمعنی فَشَغَ۔۔۔ہُ النومُ: پر نیند کا غلبہ کرنا۔ أَفْشَغَ ہٗ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ تَفَشَّغَ ہٗ: پر غالب ہونا، سوار ہونا۔۔۔ البیوتَ: گھروں کے درمیان گھس کر غائب ہو جانا۔۔۔ الرجلُ: کسل مند ہونا، کھردرے کپڑے پہننا۔۔۔ت الغُرّةُ: پیشانی کے سفید بالوں کا پھیل کر آنکھ کو گھیر لینا۔۔۔ الشیبُ فیہ و تَفَشَّغَهٗ: بڑھاپے کا نمودار ہونا اور تمام قویٰ و اعضائے بدن میں سرایت کر جانا۔ اِنْفَشَغَ: بہت ہونا، ظاہر ہونا۔۔۔ الشیءُ: کشادہ ہونا۔ الفَشْغة: اسم مرۃ۔ نرکل کا گودا، مغز۔ ناصیةٌ فَاشِغةٌ و فَشْغاء: پیشانی جس کے منتشر بال آنکھوں کو ڈھانپ لیں۔ الأَفْشَغ م فَشْغاء جمع فُشْغٌ: مینڈھا جس کے سینگ دائیں بائیں نکلے ہوئے ہوں۔ رجلٌ أفشغُ الاسنان: جس کے دانت آگے پیچھے نکلے ہوئے ہوں، برابر نہ ہوں۔ الفِشَاع: کاہلی، سستی۔ الفُشَاغ و الفُشَّاغ (ن): آکاس بیل۔

۲۔المِفْشَغ: اپنے ساتھی سے برا سلوک روا رکھنے والا۔ المُفَشِّغ: بے فیض احسان جتانے والا۔

فشق: فَشَقَ ۔فَشْقًا الشیءَ: کو توڑ دینا۔ فَشِقَ ۔فَشَقًا: بہت لالچی ہونا، ایک کو چھوڑ کر دوسری چیز پکڑنا اور یوں انجام کار دونوں کا ہاتھ سے نکل جانا۔۔۔ الظبیُ: ہرن کا دور دو سینگوں والا ہونا۔ صفت: أَفْشَق م فَشْقاء۔۔۔ و فاشق ہٗ: کو بے خبری میں آ لینا۔ تَفَشَّقَ بثوب: کپڑے کو پہننا۔ الفَشَق (مص) دوڑنا، بھاگ جانا، سرگرمی۔

فشك: الفِشْك، واحد فِشْكة: گھوڑوں کی لید (عام زبان میں)۔ الفَشَك واحد فَشَكة: کارتوس (ترکی لفظ)۔

○ فَشَك خُلَّبی: خالی کارتوس۔ فَشَك دُخَانی: دھوئیں والے کارتوس (smoke cartridges)۔

فشل: افْشَلَ ۔فَشْلًا لحیتَهٗ: ڈاڑھی کو پھٹکارنا۔

۲۔فَشِلَ ۔فَشَلًا: لڑائی اور سختی کے وقت کمزوری دکھانا، ناتوانی اور بزدلی کا مظاہرہ کرنا صفت: فَشِلٌ و فَشْلٌ و فَشِیلٌ جمع فُشْلٌ و أفشال: آج کل فَشِل فی عمله کا معنی اپنے کام میں ناکام ہونا لیا جاتا ہے۔ انْفَشَلَ: اچانک ہونے والی کسی بات پڑ ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا، وحشت زدہ ہو جانا۔۔۔ علیہ: کے لئے ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا، دہشت زدہ ہو جانا۔ اسم الفَشْلَة ہے (عام زبان میں)۔

۳۔فَشَّلَ و تَفَشَّلَ و افْتَشَلَ ت المرأةُ: عورت کا اپنی ڈولی پر پردہ ڈال لینا۔ الفِشْل جمع فُشُول و المِفْشَل جمع مَفَاشِل: ہودج کا پردہ یا ہودج میں وہ چیز جو عورت اپنے نیچے رکھ لیتی ہے۔

۴۔تَفَشَّلَ الرجلُ منهم امرأةً: مرد کا ان میں سے کسی عورت سے شادی کر لینا۔ المِفْشَل: وہ شخص جو کسی غیر خاندان کی عورت سے شادی کرے تاکہ اولاد لاغر نہ ہو۔

۵۔تَفَشَّلَ الماءُ: پانی بہنا۔ التفشیل جمع تَفَاشِیل: تھن میں باقی ماندہ دودھ۔

○ فَشِلَ ۔فَشَلًا: حوصلہ ہار جانا، بزدل یا بے ہمت ہونا یا ہو جانا، امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا، بے امید ہو جانا، توقع باطل ہونا۔۔۔ فی: میں ناکام ہونا، کامیاب نہ ہونا۔۔۔ ناکام رہنا، غلط ہو جانا۔ فَشَّلَ و افْشَلَ ہ: کی راہ میں حائل ہونا، مزاحم ہونا، کو ناکام بنا دینا، کو بے اثر کرنا۔ تَفَشَّلَ: ناکام ہونا، کامیاب نہ ہونا۔ فَشَل: ناامیدی، مایوسی، ناکامی، ٹائیں ٹائیں فش۔ فَشِل و فَشِیل: کمزور، بزدل، بے ہمت، ڈرپوک۔ فَاشِل: ناکام، بے اثر، بے نتیجہ، ناکامی سے دوچار ہونے والا، ناکارہ، فضول۔

○ فشن: الأَفْشِین جمع أَفَاشِین: اہل روم کی نماز میں ایک خاص ٹکڑا (یونانی لفظ)۔

فشو: افْشَا ۔فَشْوًا و فُشُوًّا و فُشِیًّا خبرُہ او فضلُهٗ او سرُّہٗ: خبر، فضیلت یا بھید کا پھیل جانا اور شہرت پانا۔۔۔ت الماشیةُ: مویشی کا چراگاہ میں جانا۔۔۔ت امورُهم: امور کا متفرق ہونا۔ کہا جاتا ہے: فَشَتْ علیہ ضیعتُهٗ: اس کی جائیداد کے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

معاملات بکھر گئے۔ اسکی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس سے شروع کرے۔ أَفْشَى إِفْشَاءً الشيءَ: کو پھیلانا، شہرت دینا۔۔۔ سرَّہ لِفُلان: بھید (کسی) پر ظاہر کر دینا۔۔۔ الرجُلُ: بہت مویشیوں والا ہونا۔ تَفَشَّى تَفَشِّيًا المرضُ القومَ و بهم: میں بیماری پھیلنا۔ ۔۔۔ ت القرحةُ: زخم کا چوڑا ہونا۔ الفَاشِي م فاشِيَة جمع فوَاشٍ (فا): الفَوَاشِي: پھیلے ہوئے مویشی۔ الفَشَاء: مویشیوں کی پیداوار اور زیادتی۔ الفَشْيَان: بے ہوشی۔

۲۔ الفَشْوَة: عورت کے خوشبوئیں رکھنے کا ڈبہ، عطردان۔ التَفَشِّي عند اهل العربية: بولتے وقت حرف مُفَخَّم کرنا۔

○ فَشَا ۔فَشْوًا و فُشُوًّا و فُشِيًّا: پھیل جانا، ادھر ادھر پھیل جانا، منتشر ہونا، چکر لگانا، گردش کرنا، مشہور ہونا، انکشاف ہونا، ظاہر ہونا، افشا ہونا، منظر عام پر آنا، فاش ہونا۔ أَفْشَى ہ: کو پھیلانا، کی نشر و اشاعت کرنا۔۔۔ ہ/ب: کا انکشاف کرنا، افشا کرنا، کو ظاہر کرنا، فاش کرنا۔ تَفَشَّى: پھیلنا، ادھر ادھر پھیلنا؛ بہت زوروں پر ہونا (بیماری کا)۔ تَفَشٍّ: پھیلنا، پھیلاؤ (بیماری کا) پھوٹ پڑنا۔

فصّ: فَصَّ ۔فَصًّا و افْتَصَّ كذا من كذا: کو سے جدا کرنا، اکھاڑنا۔ أَفَصَّ اليه شيئًا من حقه: کو اپنے حق میں سے کچھ نکال کر دینا۔ اِنْفَصَّ منه: سے جدا ہو جانا۔ اِسْتَفَصَّ منه شيئًا: سے کو نکالنا۔ الفَصّ: (فاء کی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ)، جمع فُصُوص و فِصاص و أَفُصّ: لہسن کا جوا: اصل و حقیقت امر: ہر دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ۔۔۔ عند العامة: ریح (پیٹ کی گیس)۔

۲۔ فَصَّ ۔فَصِيصًا الجرحُ: زخم سے خون، پیپ کا بہنا۔ ۔۔۔ العرَقُ: پسینہ کا ٹپکنا۔ فَصُّ الماء: (ف پر زبر، پیش اور زیر کے ساتھ) جمع فُصُوص و فِصاص و أَفُصّ: پانی کا بلبلہ۔

۳۔ فَصَّ ۔فصيصًا الجندبُ: ٹڈی کا آواز نکلنا۔۔۔ الولدُ: بچہ کا کمزور آواز میں رونا۔

۴۔ فَصَّصَ الخاتمَ: انگوٹھی پر نگینہ لگانا۔۔۔ بعينه: گھورنا۔ الفَصّ: (ف کی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ) جمع فُصُوص و فِصَاص و أَفُصّ: انگوٹھی میں جڑا جانے والا نگینہ (ف پر زبر زیادہ مناسب ہے) آنکھ کی سیاہی۔ الفَصَّاص: انگوٹھیوں میں نگینے لگانے والا۔ الفصيص: صاف چکنی گٹھلی۔

۵۔ فَصْفَصَ فَصْفَصَةً الكلامَ: جلدی بولنا۔۔۔ الدابةَ: جانوروں کو فصفصہ گھاس کھلانا۔ تَفَصْفَصَ القومُ عن فلان: لوگوں کا فلاں سے جدا ہونا۔ الفِصفِصَة جمع فَصَافِص (ن): جانوروں کو کھلائی جانے والی ایک گھاس جب تک تازہ ہو۔ عام لوگ اسے فِصَّة کہتے ہیں۔ الفُصافِص: پختہ ارادے والا۔

○ فَصَّصَ ہ: کا اوپر کا خول، پوست، چھلکا اتارنا۔ فَصّ جمع فُصُوص: انگوٹھی میں لگائے جانے والا ایک قیمتی پتھر، لہسن کی پوتھی، مالٹے کا) ایک ٹکڑا، کان کی لو، جوڑ، ست، جوہر، روح۔ فصُّ مِلْح: نمک کی ڈلی۔ بِنَصِّهِ و فَصِّهِ: انہی الفاظ میں، لفظی واقعی، سچ مچ۔

فصح: افَصَحَ ۔فَصْحًا الصبحُ فلانًا: کے لئے صبح ظاہر ہونا۔ فَصُحَ ۔فَصَاحَةً: فصیح ہونا، خوش بیان ہونا صفت: فصيح۔ ۔۔۔ الاعجميُ: عجمی کا عربی زبان میں گفتگو کرنا اور اس کی بات سمجھ میں آنا۔ أَفْصَحَ: فصاحت سے بولنا، فصیح ہونا، اپنی مراد کو ظاہر کرنا۔۔۔ الصبحُ: صبح کی روشنی پھیلنا۔۔۔ الامرُ: واضح ہونا۔۔۔ عن كذا: کا خلاصہ کرنا۔۔۔ عن الشيء: کو ظاہر کرنا، بیان کرنا۔۔۔ الفرسُ: گھوڑے کا صاف طور پر ہنہنانا۔۔۔ البولُ: پیشاب صاف رنگ کا ہونا۔ تَفَصَّحَ: زبان آور ہونا۔۔۔ و تَفَاصَحَ: فصیح بننا، فصیحوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ يومٌ فِصْحٌ: صاف مطلع والا دن۔ الفَصَاحة (مص): بیان، کلام کا تعقید سے خالی ہونا، یہ متکلم، کلام اور کلمۃ تینوں کی صفت آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ فصيحٌ كلامٌ فَصيحٌ و كلمةٌ فصيحةٌ۔ الفصيح جمع فُصُح و فُصَحاء و فِصَاح م فَصِيحَة جمع فِصَاح و فَصَائِح و فَصِيحَات: فصاحت والا۔ المُفْصِح: واضح۔ يومٌ مُفْصِحٌ: صاف مطلع کا دن۔

۲۔ فَصُحَ ۔فَصَاحَةً اللبنُ: دودھ سے جھاگ کا اتار لینا۔ صفت: فَصْحٌ و فَصِيح۔ فَصَّحَ اللبنُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔ أَفْصَحَ اللبنُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔۔۔ من كذا: سے نکل جانا، رہائی پانا۔ ۔۔۔ النصارىٰ او اليهودُ: یہود و نصاریٰ کی عید کا دن آنا یا عید منانا۔ الفِصْح عند النصارىٰ: ایسٹر عیسائیوں کی عید کا دن (حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نجات دہندہ) کا موت سے اٹھ کھڑے ہونے کی یاد میں منایا جانے والا دن)۔ فِصْحُ اليهود: یہودیوں کا مصر سے نکلنے کی یاد میں منایا جانے والا دن۔ اس صورت میں عبرانی لفظ فسح کا معرب ہے جس کا معنی پار جانا، عبور کرنا یا نجات ہے۔

○ فَصُحَ ۔فَصَاحَةً: فصیح ہونا۔ فَصَّحَ ہ: (زبان کو) ادبی شکل میں لانا، کو صحیح عربی بنانا، کو خالص اور صاف بنانا۔ أَفْصَحَ: بے عیب ادبی عربی میں اظہار خیال کرنا، صاف، واضح اور سمجھ کی بات کرنا۔۔۔ عن: کا اظہار کرنا، کو صاف طور پر بیان کرنا، کا صاف صاف اعلان کرنا۔ کو واضح کرنا، کے بارے میں صاف گوئی سے بات کرنا۔ ل عن: کو کے متعلق اطلاع دینا۔۔۔: صاف، واضح اور صریح ہونا۔ تَفَصَّحَ: خوش بیان بننا، زبان پر عبور کا جھوٹا اظہار کرنا۔ فَصِيح جمع فُصَحَاء و فِصَاح و فُصُح: خالص، عمدہ عربی (زبان)، ادبی؛ صحیح ادبی زبان استعمال کرنے میں ماہر، صاف، واضح، قابل فہم (زبان، گفتگو)۔ خوش اسلوب۔ فصیح۔ فَصَاحة: زبان کی پاکیزگی، زبان کا خالص ہونا، فصاحت، خوش بیانی، روانی۔ أَفْصَح م فُصْحَى: زیادہ خالص زبان کا، زیادہ فصیح، زیادہ صحیح ادبی زبان میں ماہر۔ العربية (او اللُغَة) الفُصْحَى: کلاسیکل عربی، ٹکسالی یا معیاری عربی۔ الفُصحى: کلاسیکل، ٹکسالی یا معیاری عربی۔ إفصاح: بے عیب ادبی عربی اسلوب۔۔۔ عن: کے بارے میں صاف بیان، کھلم کھلا بات، کا کھلا اعلان۔ مُفْصِح: صاف، واضح، قابل فہم، بے ابر آلود، دھوپ سے روشن، رخشندہ، درخشاں، تابندہ، تابناک (دن)۔ أَفْصَحَ: عیسائیوں کا ایسٹر منانا، یہودیوں کا نجات کا دن منانا۔ فِصْح و فَصْح جمع فُصُوح: ایسٹر (عیسائیوں کا)، (یہودیوں کی) عید فصح۔

فصخ: فَصَخَ ۔فَصْخًا عن الامر: کسی معاملہ میں جان بوجھ کر غفلت کرنا۔۔۔ العودَ او المفصلَ: لکڑی یا جوڑ کو اکھیڑنا۔ فُصِخَ فلانٌ: خرید و فروخت میں نقصان اٹھانا۔ الفصيخ و الفَصِيخَةُ و الفاصِخَة: غلط رائے قائم کرنے والا۔ اس میں "ۃ" مبالغہ کیلئے ہے۔

فصد: افَصَدَ ۔فَصْدًا و فِصَادًا المريضَ: مریض کی رگ کھولنا۔۔۔ له عطاءً: کو جاگیر دینا۔۔۔ و افْتَصَدَ العِرقَ: رگ کھولنا۔ أَفْصَدتِ الشجرةُ: درخت کی کونپلیں نکلنا۔ تَفَصَّدَ الدمُ: خون بہنا، جاری ہونا۔ کہا جاتا ہے: جاءَ يتفصّد عرَقًا: وہ اس حال میں آیا کہ اس کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اِنْفَصَدَت الشجرةُ: درخت کی کونپلیں نکلنا۔۔۔ الدمُ: خون بہنا، جاری ہونا۔ الفَصِيد: بمعنی مَفْصُود: یعنی وہ شخص جس کی فصد کھولی گئی ہو۔ المِفْصَد: نشتر، فصد کھولنے کا آلہ، عام لوگ اسے الريشة کہتے ہیں۔

۲۔ فَصَّدَ الشيءَ: کو تھوڑے سے پانی میں بھگونا۔ الفُصْدَة

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

و الفَصِيدَة: خون ملی کھجوریں۔ الفَصِيد (ط): وہ خون جس کو آنتوں میں بھر کر پھونکا اور بھونا گیا ہو۔

فَصَدَ - فَصْدًا و فِصَادًا: رگ کھولنا۔ — ہ: کا فصد کھولنا، خون لینا۔ تَفَصَّدَ عَرَقًا: چہرہ وغیرہ کا پسینہ بہنا۔ اِنْفَصَدَ: کا فصد کھولا جانا، کا خون لیا جانا، (ناک کا) خون بہنا۔ فَصْد: رگ کا کھولنا، خون لینا، خون کشی۔ فِصَاد: رگ کا کھولنا، خون لینا، خون کشی۔ فِصَادَة جمع فصائد: خون لینا، خون کشی۔ مِفْصَد جمع مَفَاصِد: نشتر۔

فصع: ۱۔ فَصَعَ - فَصْعًا التمرةَ: دو انگلیوں سے دبا کر کھجور کا چھلکا علیحدہ کرنا۔ — الشیءَ: کو انگلیوں سے دبانا تا کہ نرم ہو جائے اور اندرونی حصہ کھل جائے۔ — عمامتَهُ عن رأسه: سر سے عمامہ اتارنا۔ فَصَّعَ الرطبَةَ: تر کھجور کو دو انگلیوں سے دبانا تا کہ چھلکا علیحدہ ہو جائے۔ — الشیءَ من کذا: کو سے نکالنا۔ اِنْفَصَعَ الشیءُ عن کذا: کا سے نکلنا، کا سے باہر نکل آنا۔ افْتَصَعَ حقَّهُ منه: سے اپنا پورا حصہ جبراً لے لینا۔ الفُصْعَان: ہمیشہ ننگے سر رہنے والا۔

۲۔ فَصَعَ - فَصْعًا و فَصَّعَ له بکذا: کو کوئی چیز عطا کرنا۔

۳۔ الفُصَعَاء (ح): چوہیا۔

فصف: الفُصْفُور (ك): فاسفورس۔

فُصْفَات: فاسفیٹ (phospate)۔

فصف: الفُصْفُور (ك): فاسفورس (phosphorus)

فُصْفُوری: فاسفوری، فاسفورس کا۔ ضیاءٌ فُصْفُوری: ضیاء پاشی، ضوافگنی (phosphore -scence)۔

فصل: ۱۔ فَصَلَ - فَصْلًا الشیءَ: کو قطع کرنا، جدا کرنا، علیحدہ اور ممتاز کرنا۔ فَصَلَ الخصوماتِ: جھگڑوں کو فیصلہ کر کے قطع کر دینا۔ — بینهما: دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ہونا، رکاوٹ ہونا، حائل ہونا۔ — الولدَ عن الرَّضاعِ: بچہ کا دودھ چھڑانا۔ — فُصُولًا الرجلُ عن البلد: شہر سے نکل جانا۔ — الکرمَ: انگور کی بیل کا دانا نکالنا۔ فَصَّلَ الکلامَ: کلام کی وضاحت اور تفصیل کرنا۔ یہ اجمل کی ضد ہے۔ — الشیءَ: (ایک باب) کو چند فصول پر منقسم کرنا، کے چند الگ ٹکڑے کرنا۔ — الثوبَ: کپڑے کو سینے کے لئے قطع کرنا۔ — القصّابُ الشاةَ: قصائی کا بکری کاٹ کر علیحدہ علیحدہ ٹکڑے کرنا۔ — العقدَ: ہار کے دو ہم رنگ موتیوں یا چھاتیوں کے درمیان میں ایک دوسرے رنگ کا موتی یا مہرہ ڈالنا۔ فاصَلَ شریکَهُ: اپنے حصہ دار سے علیحدہ ہو جانا۔ عام لوگ کہتے ہیں: فاصَلَهُ فی السعر: وہ اپنے حصہ دار سے نرخ کے معاملہ میں علیحدہ ہو گیا۔ اسم المُفَاصَلَة: افصَلَ المولودُ: بچہ کے دودھ چھڑانے کا وقت آ جانا۔ المریضُ: مریض کا مر جانا (عام زبان میں)۔ تَفَصَّلَ: ہر ہر عضو کے ٹکڑے ہو جانا۔ تفاصَلَتِ الاشیاءُ: بعض کا بعض سے جدا ہونا۔ اِفْتَصَلَ النخلةَ عن موضعِها: کھجور کے پودے کو اس کی جگہ سے اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا۔ — الولدَ عن الرَّضاعِ: بچہ کا دودھ چھڑانا۔ اِنْفَصَلَ: جدا ہونا (یہ اِتَّصَلَ کی ضد ہے)۔ — عنه: سے علیحدگی اختیار کرنا۔ اِسْتَفْصَلَ: تفصیل طلب کرنا۔ الفَصْل (مص): حق و باطل کے درمیان فیصلہ۔ — جمع فُصُول: دو چیزوں کے درمیان کی روک، دو زمینوں کے درمیان کی حد، فرع۔ (کہا جاتا ہے: للنسب اصول و فصول: یہاں فصول سے مراد فروع ہے)۔ سال کے چار موسموں اور حصوں میں سے ایک حصہ یعنی موسم بہار، گرمی، خریف، سردی۔ —— من الجسد: دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ جس کو جوڑ کہتے ہیں۔ —— من الکتاب: کتاب کا ایک مستقل ٹکڑا۔ قولٌ فَصْلٌ: قول حق جس میں باطل کا شائبہ نہ ہو۔ یومُ الفَصْلِ: قیامت کا دن۔ فَصْلُ الخطاب: حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا خطاب، خطیب کے قول اما بعد کو بھی فصل الخطاب کہا جاتا ہے۔ الفَصْلَة: فصل کا اسم مرة۔ کھجور کا پودا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لگایا گیا ہو۔ الفِصْلة او الکاسِیَة (ز): پھول کے چاروں طرف سبز پتوں کے غلاف کا ایک ٹکڑا، جو کبھی جدا ہوتا ہے تو کبھی ساتھ۔ الفِصَال: بچہ کا دودھ چھڑانا۔ الفَصَّال: انعام حاصل کرنے کے لئے لوگوں کی تعریفیں کرنے والا۔ سیفٌ فَصَّالٌ: شمشیر قاطع۔ الفاصِل فا: حکمٌ فاصِلٌ: نافذ ہونے والا حکم۔ الفاصِلَة جمع فَوَاصِل: فاصل کا مؤنث۔ ہار کے دو مہروں کے درمیان ایک دوسرے رنگ کا مہرہ۔ الفاصلةُ الصُّغری: (علم عروض میں): تین متحرک حروف کے بعد چوتھا حرف ساکن ہونا جیسے: ضَرَبَتْ۔ م۔ الفاصِلة الکبری: چار متحرک حروف کے بعد پانچواں ساکن ہونا: جیسے: ضَرَبَکُمْ (جمع میں)؛ شعر کا قافیہ۔ الفَصِيل جمع فِصَال و فُصْلان و فِصلان: شہر پناہ کے سامنے چھوٹی دیوار، اونٹنی یا گائے کا بچہ جو ماں سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ الفَصِیلَة جمع فَصَائِل: فصیل کا مونث، ران کے گوشت کا پارچہ یا حصہ بدن کا ٹکڑا، قبیلہ اور خاندان کے [illegible] کنبہ اور [illegible] کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا بفصیلتهم: وہ سب آئے۔ الفَیْصَل جمع فَیَاصِل: حاکم، قاضی، وہ حکم یا فیصلہ جو حق و باطل میں امتیاز کر دے، جو چیز چند امور میں فیصلہ کر دے، تلوار قاطع۔ حکمٌ فَیْصَلٌ: نافذ شدہ حکم۔ حکومةٌ فیصلٌ: نافذ ہونے والی حکومت۔ ضربةٌ فَیْصَلٌ: وہ مار جو دو ہمسروں میں فیصلہ کن ہو۔ الفَیْصَلی: حاکم، جج۔ المَفْصِل جمع مَفَاصِل: بدن کے اعضاء کا جوڑ۔ المفاصِل: ایک دوسرے سے ملے ہوئے پتھر، دو پہاڑوں کے درمیان کی ریگستانی یا پتھریلی زمین جس کا پانی نہایت ہلکا اور صاف ہوتا ہے۔ داءُ المَفَاصِل (طب): جوڑوں کے درد کی بیماری۔ المِفْصَل: زبان۔ المِفْصَال: جس کی عادت فیصلہ کی ہو۔ المُفَصَّلَة: (بڑھیوں کی اصلاح میں) قبضہ جو دروازوں وغیرہ میں لگایا جاتا ہے۔ الانفصالی: علیحدگی پسند۔ الاِنْفِصَالِیَّة: علیحدگی پسندی، علیحدگی پسند کی کیفیت۔

۲۔ الفاصُولِیَة و الفَصُولِیَة او اللُّوبِیاء (ن): پھلی (bean)۔

فَصَلَ - فَصْلًا ہ عن: کو سے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، منقطع کرنا۔ —— بین: دو چیزوں کو یا شخصوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کرنا۔ —— ہ: کو کاٹنا، الگ کرنا، جدا کرنا، دو ٹکڑے کرنا، کاٹ ڈالنا، کا سلسلہ منقطع کرنا، میں مداخلت کرنا، کی راہ میں حائل ہونا، رکاوٹ کھڑی ہو جانا، بات کاٹنا، قطع کلام کرنا۔ —— ہ عن/من: کو سے سبکدوش کرنا، کو سے برخاست کرنا، برطرف کرنا، کو سے نکال دینا، کو سے محروم کرنا۔ —— ہ: جھگڑے وغیرہ کا فیصلہ کرنا۔ —— فی: میں، کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ — ہ: کی قیمت متعین کرنا۔ — ہ عن الرضاع: بچہ کا دودھ چھڑانا (مصدر فصال)۔ فَصَلَ - فُصُولًا من/عن: سے دور چلے جانا (جگہ) چھوڑ دینا، ترک کر دینا، (سے) نکل جانا۔ فَصَّلَ ہ: کو خاص حصوں میں تقسیم کرنا، کی ٹولیاں بنانا، کو ترتیب دینا، کی درجہ بندی کرنا، کو قسم وار کرنا؛ کو منطقی ترتیب سے پیش کرنا، کی تفصیلات دینا، کو مفصل بیان کرنا، کے کوائف درج کرنا، کو واضح کرنا، کپڑے کو قطع کرنا (سلائی کے لئے)۔ فاصَلَ ہ: سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ —— ہ علی: سے کیلئے سودے بازی کرنا، کے بارے میں بول تول کرنا۔ اِنْفَصَلَ عن: سے جدا ہونا، الگ ہونا، علیحدہ ہونا۔ —— عن/من: سے سبکدوش ہونا، برطرف ہونا، برخواست ہونا، سے نکالا جانا، سے محروم ہونا (سیاسی جماعت) کو چھوڑ دینا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فصل: الگ ہونا یا کرنا، جدا ہونا یا کرنا، علیحدگی، منقطع ہونا یا کرنا، کاٹنا، علیحدگی؛ تقسیم۔ ــــ من/عن: سے سبکدوشی، برطرفی، برخاستگی؛ فیصلہ، حکم (ج کا) جمع فُصُول: حصہ، جزباب، ایکٹ (ڈرامہ کا)؛ سمفنی کی حرکت؛ (اخبار وغیرہ میں) مضمون؛ جماعت، درجہ (سکول میں)؛ موسم۔ فصل الخطاب: فیصلہ، بے غلط حکم۔ بینی و بینك فصل الخطاب: ہم اور تم میں ہمیشہ کیلئے بول چال بند ہوگئی۔ فصل التمثیل: (تھیٹر کا) موسم۔ القول الفصل: آخری لفظ، آخری فیصلہ۔ یوم الفصل: قیامتِ کا دن۔ فَصْلَة: نکتہ کوما comma۔ فصلة مَنْقُوطَة: سیمی کولن: وقف ناقص semicolon (؛)۔ فِصْلَة: طبع ثانی، طبع جدید۔ فَصِيلَة جمع فَصَائِل: جنس، قسم، نوع، خاندان، کنبہ، گروہ، فوج یا بیڑے کا وہ حصہ جو علیحدہ کسی مہم پر بھیجا جائے، دستہ (فوجی): اڈا (سیاسی) پلاٹون (platoon)، سکواڈرن (squadron)۔ فصيلة دم: خون کی قسم (blood group)۔ فصيلة الاعدام: فیری دستہ (firing squad)۔ فصيلة الاستكشاف: دیکھ بھال کا دستہ (reconnaissance squad)، گشت (patrol)۔ فَيْصَل: فیصلہ کن اصول یا معیار، ثالث۔ فَيْصَلِيَّة: فیصل ٹوپی، عراقی میدان جنگ کی ٹوپی۔ تفصيلا اور بالتفصيل: تفصیل کے ساتھ، تفصیل سے، بڑی دقت نظر سے، بڑی باریک بینی سے۔ من تفصيل: کاناپ کے مطابق قطع کیا ہوا، (فلاں) درزی کا۔ ثياب التفصيل: درزی کے سلے ہوئے کپڑے۔ مَحْبُوك التفصيل: پورے فٹ کپڑے۔ تفصيلي: مفصل، خاص، تجزیاتی، تحلیلی۔ بالتفصیل۔ تفصيليًا: علیحدہ علیحدہ، فرداً فرداً، ایک ایک کرکے۔ المساحة التفصيلية: مساحت (land surrvey)۔ اِنْفِصَال: علیحدگی، انقطاع، خلل اندازی، قطع کلام، حلل، رکاوٹ۔ حرب الانفصال: امریکہ کی خانہ جنگی۔ انصار الانفصال: علیحدگی پسند separatist۔ اِنْفِصَالِي: علیحدگی پسندانہ (جمع، اِنفِصَالِيُون) علیحدگی پسند۔ اِنفصالية: علیحدگی پسندی (separatism)۔ فَاصِل: افتراقی، علیحدہ کرنے والا، تقسیم کرنے والا، جدا کرنے والا، فیصلہ کن، قطعی، جدائی، علیحدگی، فراق، تقسیم، خلل اندازی، قطع کلام۔ بلا فاصِل: بلاخلل و قطع کلامی، بلاانقطاع۔ فاصل الحرارة: حاجز حرارت (heat insulating)۔ مُبَارَاة فاصِلَة: آخری مقابلے، آخری میچ۔ خط فاصِل: حد بندی کی لکیر۔ فَاصِلَة جمع فواصِل: تقسیم، شگاف، درز، درمیانی فاصلہ، وقفہ، سکتہ (کوما (،)۔ ڈیش dash (ـ)، قرآنی آیت کا قافیہ اختتام۔ مُفَصَّل: تفصیلی، باریک بینی یا بڑی دقت نظر سے بیان کردہ، مفصل، قرائی، درزی کا سلا ہوا، رواج کے مطابق سلا ہوا۔ مُفَصَّلاً: بالتفصیل، تفصیلی طور پر، بڑی دقت نظر سے، بڑی باریک بینی سے۔ مُفَصَّلَة جمع مُفَصَّلات: قبضہ دروازوں وغیرہ پر لگایا جانے والا (hinge)۔ منفصل: علیحدہ، الگ، جدا کیا ہوا۔

فصم: ۱۔ فَصَمَ ـ فَصْمًا الدملجَ ونحوه: بازوبند وغیرہ کو بغیر جدا کئے ہوئے توڑنا۔ تَفَصَّم وانفصَم: جدا کئے بغیر ٹوٹنا، پھٹنا، دراڑ پڑنا۔ الفصيم والأفْصَم: ٹوٹا ہوا، پھٹا ہوا۔

۲۔ فَصَمَ ـ فَصْمًا الشيءَ: کو کاٹنا، قطع کرنا۔ فُصِمَ البيتُ: مکان منہدم ہوجانا۔ أَفْصَمَ عنه المطرُ او الحُمّی: سے بارش یا بخار کا منقطع ہونا۔ الفَصِيم و الأفصَم: منقطع، کٹا ہوا۔

○ فَصَمَ ـ فَصْمًا ه: کو چٹخانا، میں شگاف ڈالنا، کو چیرنا، پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جدا کرنا۔ فُصِمَ: مکان تباہ ہوجانا۔ اِنْفَصَمَ: شگاف دار ہونا، چٹخا ہوا ہونا، پھٹنا، چرنا۔ فَصْم جمع فُصُومات: طاق، طاقچہ، موکھا، جھروکا۔ انفصام: شگاف، فکر و عمل میں تضاد کی بیماری، فکر و عمل میں بے تعلقی۔

فصی: ۱۔ فَصَى ـ فَصْيًا الشيءَ من الشيءِ و عنه: کو سے جدا کرنا، دور کرنا۔ فَصَّى تَفْصِيَةً اللحمَ من او عن العظم: گوشت کو ہڈی سے چھڑانا اور علیحدہ کرنا۔ فَاصَ مُفَاصَاةً: سے جدا ہونا۔ أَفْصَى إفصاءً: خیر یا شر سے نکل جانا، چھٹکارا پانا۔ ــــ عنا المطرُ: بارش ہم سے منقطع ہوگئی۔ ــــ الصائِدُ: شکاری کے جال میں شکار کا نہ پھنسنا۔ تَفَصَّى تَفَصِّيًا و انفصى اِنفِصَاءً الرجلُ من الرجل وعنه: مرد کا مرد سے جدا ہونا۔ ــــ من او عن الشدّة او غيرها: سختی وغیرہ سے رہائی پانا۔ کہا جاتا ہے: تَفَصَّى من الدیون: وہ قرضوں سے باہر نکلا اور ان سے خلاصی پائی۔ الفَصْيَة: خیر اور شر سے رہائی، چھٹکارا۔ ــــ مابين الحرّ و البرد: موسم کا اعتدال۔ کہا جاتا ہے: يومُ فَصْيَةٍ و فُصْيَةٍ و يوم مُفْصٍ و ليلةُ فَصْيَةٍ و فُصيَةٍ و ليلةٌ فُصْيَةٌ: معتدل دن، معتدل رات۔ الفَصِيَّة جمع فَصَايَا: خیر سے محرومی، شر سے رہائی۔

۲۔ تَفَصَّى تَفَصِّيًا الشيءَ: پر پوری طرح غور کرنا، کی تہہ تک پہنچنا۔

۳۔ الفَصَی و احد فَصَاة: خشک انگور کا دانہ۔

فضّ: ۱۔ فَضَّ ـ فَضًّا الشيءَ: کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ــــ القومَ: قوم کو متفرق کرنا۔ کہا جاتا ہے: فَضَّ اللّه جمعَهُمْ و فضضتُ حلقةَ القومِ: اللہ تعالیٰ ان کی جمعیت کو متفرق کر دے۔ (میں نے قوم کے حلقہ کو توڑ دیا)۔ ــــ ختمَ البابِ و الختمَ عن الكتاب: دروازہ اور کتاب کی مہر توڑنا، اور کھولنا۔ ــــ الشيءَ على القوم: کو قوم پر تقسیم کرنا۔ ــــ مابينهما: کے درمیان قطع تعلق کرنا۔ ــــ اللؤلؤة: موتی بیندھنا۔ ــــ الدموعَ: آنسو بہانا۔ ــــ اللّهُ فاهُ: اللہ کا کسی کے دانتوں کو گرا دینا۔ لافُضَّ فُوكَ: یہ اس شخص کے لئے دعا ہے جو بہترین گفتگو کرے کہ تمہارے دانت نہ گرائے جائیں۔ فَضَّضَ الشيءَ: پر چاندی کا ملمع کرنا، پر چاندی کی جڑائی کرنا۔ أَفَضَّ العطاءَ: بہت دینا۔ تَفَضَّضَ: متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ إِفْتَضَّ الماءَ: پانی آہستہ آہستہ یا تھوڑا تھوڑا گرانا۔ إِنْفَضَّ: ٹوٹ جانا، متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ ــــت الدموعُ: آنسو بہنا۔ الفَضّ (مص): بکھرے ہوئے لوگ۔ کہا جاتا ہے: فی المدينة فَضٌّ: شہر میں ہر طرف لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ تمرٌ فَضٌّ: بکھری ہوئی کھجوریں۔ الفاضة جمع فَوَاضّ: فاض کا مونث، مصیبت۔ الفَضَض: وہ پانی جو نہاتے وقت ادھر ادھر بکھر جائے، ہر متفرق و منتشر چیز۔ کہا جاتا ہے: خرج فَضَضٌ من الناس: متفرق فرقے نکلے۔ الفِضّة (ك): چاندی۔ ــــ و الفَضة: وہ زمین جہاں پتھر ایک دوسرے کے اوپر بکھرے ہوئے ہوں۔ الفُضاض و الفِضاض و الفُضَاضَة: ریزے، ٹکڑے۔ کہا جاتا ہے: طَارُوا فُضَاضًا: وہ متفرق ہو کر اڑ گئے۔ الفَضِيض: ہر متفرق اور منتشر چیز، ٹوٹا ہوا، خوشگوار پانی یا بہتا ہوا پانی۔ المِفضاض و المِفَضّ و المِفضة: ہنگا، موگری۔

۲۔ فَضْفَضَ فَضْفَضَةً الثوبُ او العيشُ: لباس کا کشادہ ہونا، زندگی کا آرام دہ ہونا۔ ــــ ه: کو کشادہ کرنا۔ الفَضْفَاض: کشادہ کپڑا، خوش اور آرام دہ زندگی، فیاض شخص۔ ارضٌ فَضْفَاض: وہ زمین جہاں بارش کی کثرت سے پانی جمع ہو۔ جارِيَة فَضْفَاضَة: پر گوشت اور طویل قامت لڑکی۔ درعٌ فَضْفَاضَة و فُضَافِضَة: کشادہ زرہ۔ سحابة فُضْفاضة و فُضَافِضَة: بہت پانی والی بدلی۔

○ فَضَّ ـ فَضًّا ه: کو توڑ کر کھولنا، کو بیرم سے کھولنا، کو زور

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لگا کر کھولنا، (مہر) توڑنا، کو بکھیرنا، منتشر کرنا، تباہ کرنا؛ (موتی) میں چھید ڈالنا، کو چھیدنا؛ جلسہ، اجلاس ختم کرنا؛ (پارلیمنٹ) توڑنا، (جھگڑا) چکانا، طے کرنا؛ (آنسو) بہانا۔ فضّ بکارۃ: نہالڑکی کا کنوار پن ختم کرنا۔ لافضّ فوک: تم نے کتنی اچھی گفتگو کی ہے! فضّض ہ: پر (چاندی) کا ملمع کرنا، پر (چاندی) چڑھانا۔ انفضّ: کھل جانا، ٹوٹ جانا، (مہر) کا ٹوٹ جانا، بکھر جانا، منتشر ہو جانا، دشمن کی صفوں میں بھگدڑ مچنا۔ (فوج وغیرہ کا) منتشر ہونا، خدمت سے سبکدوش ہونا۔ (اجلاس) ختم ہونا۔ افتضّ ھا: لڑکی کا کنوار پن ختم کرنا، کا ازالہ بکارت کرنا۔ فِضّۃ: چاندی۔ فِضّی: چاندی کا سا، نقرئی، سیمیں، چاندی کا بنا ہوا۔ فِضّیات: چاندی کے برتن۔ الجمھوریۃ الفضیۃ: ارجنٹائن (Argentina)۔ الستار الفضّی: فلمی پردہ، پردۂ سیمیں۔ مِفضّ: کھولنے کا اوزار (opener)۔ افتضاض: پردہ بکارت کا ازالہ۔

فضج ا۔ تفضّج و انفضج الرجل عرقاً و بالعرق: کی بالوں کی جڑوں میں پسینہ آنا اور تر نہ ہونا۔ الفضیج: پسینہ۔ تفضّج الشیءُ: کشادہ ہونا، وسیع ہونا۔ — جسدُہ بالشحم: کے جسم کا موٹاپے سے پھٹ جانا۔ انفضجت القرحۃ: زخم کا کھل جانا۔ — الافقُ: افق کا ظاہر ہونا۔ — البدنُ: بدن کا بہت موٹا ہو جانا۔ — البطنُ: پیٹ کے نرم حصوں کا ڈھیلا پڑ جانا۔ — الامرُ: ڈھیلا اور کمزور ہونا۔

فضح: ا۔ فضح ـَـ فضحاً ہ: کی برائیاں ظاہر کرنا، کو رسوا کرنا۔ — المُعمّی: معمہ حل کرنا۔ — القمرُ النجوم: چاند کا اپنی روشنی سے ستاروں پر غالب آنا۔ — الصبحُ: صبح کا طلوع ہونا۔ — الصبحُ فلاناً: پر صبح کا نمودار ہونا اور اس کی روشنی کا غالب آنا۔ فضّح و افضح الصبحُ: صبح کا طلوع ہونا۔ فاضحہ و تفاضح: ایک دوسرے کو رسوا کرنا، ایک دوسرے کی برائیوں کو ظاہر کرنا۔ افتضح الامرُ: مشہور ہو جانا۔ — الرجلُ: رسوا ہو جانا، کی برائیوں کا ظاہر ہو جانا۔ الفاضح (فا): صبح۔ الفضاحۃ و الفضوح و الفضوحۃ و الفِضاح: رسوائی، برائیوں کا ظاہر ہو جانا۔ الفضّاح: صیغہ مبالغہ۔ الفضوح: رسوا کرنے والا، برائیوں کو ظاہر کرنے والا، رسوا شدہ۔ الفضیح: مال یا مویشیوں کا برا کارپرداز۔ الفضیحۃ جمع فضائح: فضیح کا مونث، برائی، رسوائی۔ المفضحۃ جمع مفاضح: رسوائی کا باعث اور سبب۔

۲۔ فضِح ـَـ فضحاً: تھوڑا سفید ہونا صفت: افضح م فضحاء جمع فُضح۔

۳۔ افضح النخلُ: کھجور کے درخت کا سرخ یا زرد پھل والا ہونا۔

○ فضح ـُـ فضحاۃً ہ: کی برائیوں یا جرائم کو بے نقاب کرنا، کو بے نقاب کرنا، کی اصلیت بتانا، کی حقیقت سے آگاہ کرنا، کو شرم دلانا، کو ذلیل کرنا، کا موجب رسوائی ہونا۔ — ہ: (چاند کا ستاروں کو) ماند کرنا، سے زیادہ چمکنا۔ — ھا: (عورت) کی عصمت دری کرنا۔ — ہ: کو ظاہر کرنا، فاش کرنا، افشا کرنا۔ انفضح: بے نقاب ہونا، مشتبہ بننا، ذلیل ہونا، رسوا ہونا۔ اِفتضح: مشہور ہو جانا، معلوم ہو جانا۔ افتضح امرُہ: وہ بے نقاب ہو گیا۔ فضح: پردہ دری، تذلیل، شرمساری، ٹھیس، سبکی، بے قدری، ذلت، خواری، رسوائی۔ فضیح: شرمسار، بے نقاب، مشتبہ، رسوا، شرمناک رسوائی کا موجب، بدنام، رسوا کن، موجب رسوائی، فضیحت ناک۔ فضیحۃ: پردہ دری، تذلیل، شرمساری، ٹھیس، سبکی، بے قدری، ذلت، خواری، رسوائی، جمع فضائح: موجب رسوائی یا رسوا کن عمل یا چیز، بدنامی، رسوائی، ذلیل حرکت، فضیحت، بے عزتی، ذلت، شرمناک بات، شرمناک واقعہ، بدنامی یا رسوائی کی باتیں (scandal)۔ فضّاح: رازوں کو افشا کرنے والا، شرمناک باتوں کو بے نقاب کرنے والا۔ اِفتضاح: ذلت، رسوائی، کھلی بے عزتی، بدنامی۔ فاضح: شرمناک رسوائی کا موجب، شرمناک، بدنام، رسوا کن، موجب رسوائی، فضیحت ناک، ذلت آمیز، موجب بدنامی، دل آزار۔ مفضوح: بے نقاب، بدنام، موجب بدنامی، شرمناک رسوائی کا موجب، شرمناک، مشتبہ، شرمندہ، ذلیل۔

○ فضفاض: چوڑا، ڈھیلا، لہراتا، لٹکتا (لباس)، بہت، وافر؛ فربہ اور گول مٹول (لڑکی)؛ پر تکلف بلند آہنگ اور نری لفاظی والا یا صرف عبارت آرائی پر مشتمل (خطاب، گفتگو وغیرہ)

فضخ: فضخ ـَـ فضخاً الشیءَ: (کھوکھلی) چیز کو توڑنا۔ — الرأسَ: سر کچلنا۔ — العینَ: آنکھ پھوڑنا۔ افضخ العنقودُ: انگور کے گچھے کا نچوڑے جانے کا وقت آنا۔ اِفتضخ البسرَ: کچی کھجور کی نبیذ بنانا۔ اِنفضخ: ٹوٹنا، کشادہ ہونا۔ — ت القرحۃُ: زخم کا کھل جانا۔ — ت الدلوُ: ڈول کا پانی چھلکنا۔ — زیدٌ: زید کا بہت رونا۔ فضخ الماءِ: پانی کی چھلک۔ الفضوخ: [illegible] بنانے والی [illegible]

انگور کا شیرہ، کھجور کی شراب، بہت پانی ملا ہوا پتلا دودھ۔ المِفضخۃ جمع مفاضخ: وہ پتھر جس سے کچی کھجوریں توڑی جاتی ہیں، چوڑا ڈول۔

فضل: ا۔ فضل ـُـ و فضِل ـَـ فضلاً: باقی رہنا۔ افضل من الشیءِ: کا بقیہ چھوڑ دینا۔ تفضّل الرجلُ: شب خوابی کا لباس پہننا، یا کام کاج کا لباس پہننا۔ استفضل من الشیءِ: کا بقیہ چھوڑ دینا یا باقی رکھنا۔ الفضل جمع فضول: بقیہ۔ کہا جاتا ہے: فی یدہ فضل الزمام: اس کے ہاتھ میں لگام کا کنارہ ہے۔ (ع ح): زیادہ چیز سے کم چیز نکالنے کے بعد جو بچ جائے۔ الفضلۃ جمع فضلات و فِضال، فِضل کا اسم مرہ، چیز کا باقی بچا ہوا حصہ، بقیہ شراب۔ —— والفُضل و الفِضال: وہ کپڑا جو نیند کے وقت یا کام کے وقت پہنا جائے یا جس کو گھر میں استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے: رجل فُضُل: کام کاج کے کپڑے پہننے والا مرد۔ امرأۃ فُضُل: کام کاج کے کپڑے پہننے والی عورت۔ الفُضالۃ جمع فضالات: بقیہ۔ و الفاضل عند العامۃ: چیز کا باقی ماندہ حصہ۔ الفضول: مال غنیمت میں سے بچ جانے والا حصہ جو تقسیم نہ کیا جائے۔ المِفضل و المِفضلۃ جمع مفاضل: وہ لباس جو کام یا نیند کے وقت پہنا جاتا ہے یا گھر میں پہنا جاتا ہے۔

۲۔ فضل ـُـ و فضِل ـَـ فضلاً: زاید ہونا۔ افضل علیہ: پر بڑھنا۔ (کہا جاتا ہے: رأیتُ صفّھم قد افضل علی صفّنا: میں نے ان کی صف کو دیکھا کہ ہماری صف سے بڑھ گئی ہے۔) سے زیادہ ہونا۔ الفضل جمع فضول: زیادتی، بڑھوتری۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یملك درھما فضلا عن دینار: وہ درہم کا مالک نہیں تو دینار کا کیسے ہو سکتا ہے۔ فضل کا نصب مصدر ہونے کی وجہ سے ہے۔ الفضول: حاجت سے زائد مال۔ فضول البدن: جو طبعی طور پر بدن کے مساموں یا مخارج سے نکلے جیسے پسینہ، تھوک وغیرہ۔ الفضولی: غیر متعلق چیزوں میں مشغول ہونے والا، عام لوگ اسے الحشري کہتے ہیں۔ فواضل المال: مال کے منافع یا غلہ۔

۳۔ فضل ـُـ فضلاً ہ: پر فضل میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے: فضل فلانٌ علی غیرہ: وہ دوسروں پر فضل میں غالب ہو گیا۔ فضِل و فضُل ـُـ فضلاً: صاحب فضل ہونا، صاحب فضیلت ہونا۔ فضّلہ علی غیرہ: پر دوسروں کے مقابلہ میں فضل و فضیلت والا ہونے کا حکم لگانا، کو دوسروں پر ترجیح دینا، کو سے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زیادہ اچھا بنانا۔ فَاضَلَ فِضَالاً و مُفَاضَلَةً: پر فضل میں فخر کرنا۔ ــــ بین الشیئین: ایک چیز کی دوسری پر فضیلت کا حکم لگانا۔ اَفْضَلَ علیہ: سے بھلائی کرنا، پر مہربانی کرنا۔ ــــ علیہ فی الحسب: سے حسب میں بڑھ جانا۔ تَفَضَّلَ علیہ: پر مہربانی کرنا، پر فضل کا دعویٰ کرنا۔ المولّدون: (جدید عرب مصنفین) کے نزدیک تَفَضَّل (امر کے صیغہ کے ساتھ) کا لفظ مخاطب کو ''تشریف لائیے''، تشریف رکھنے یا کھانا تناول کرنے کی دعوت دینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں گویا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: جناب آپ کی کرم فرمائی ہوگی اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ تَفَاضَلَ الرجلان: ایک دوسرے پر فضل کا دعویٰ کرنا۔ الفَضْل جمع فُضُول: احسان یا اس کی ابتداء بغیر کسی وجہ کے۔ الفَاضِل جمع فَاضِلون و فُضَلاء م فَاضِلَة جمع فَاضِلات و فَوَاضِل: صاحب فضل، صاحب فضیلت۔ الفَاضِلَة: فضل میں بلند مرتبہ، ہبہ، نعمت۔ الفَضَّال: بہت فضل والا۔ الفَضُول: بہت فضل کرنے والا۔ الفَضِيل جمع فُضَلاء: صاحب فضل، صاحب فضیلت۔ الفَضِيلة جمع فَضَائِل: فضل میں بلند مقام و درجہ و مرتبہ، خوبی، وصف، فضیلت، شرف۔ الأفضل جمع افضلون و اَفَاضِل م فُضْلَى جمع فُضْلَيَات و فُضَل: فضل میں بڑھا ہوا۔ المِفْضَل: بہت فضل والا۔ المِفْضَال م مِفْضَالة: بہت فضل والا۔ کہا جاتا ہے: ھو مِفْضَالٌ علی قومہ: وہ اپنی قوم سے بھلائی اور احسان کرنے والا ہے۔ المُفَضَّل: بہت فضل والا، وہ شخص جس کے متعلق حکم لگایا گیا ہو کہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ صاحب فضل ہے۔

○ فَضَلَ ـُ و فَضِلَ ـَ فَضْلاً: زائد رہنا، چھوڑا جانا، بچنا۔ فَضَلَ ـُ فَضْلاً ہ/علی: سے بازی لیجانا، سبقت لیجانا، سے بہت عمدہ ہونا، پر شرف رکھنا۔ ــــ: بہت عمدہ ہونا، اعلیٰ ہونا، بڑھیا ہونا، برتر ہونا، اول درجے کا ہونا، اعلیٰ درجے کا ہونا، بہت خوشنما ہونا، اچھا ہونا، بہتر ہونا، زیادہ کافی ہونا۔ فَضَّلَ ہ/ہ علی: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا، کو پر ترجیح دینا، کو پر یا کے سامنے رکھنا۔ فَاضَلَ ہ: سے برتری یا پیش روی میں مقابلہ کرنا۔ فَاضَلَ بین شیئین: دو چیزوں کا آپس میں مقابلہ کرنا تا کہ دیکھا جائے کہ ان میں سے کونسی چیز ترجیح کی مستحق ہے۔ اَفْضَلَ علی: کو نفع مرحمت کرنا، پر احسان کرنا، مہربانی کرنا۔ ــ علی ب: کو کچھ پیش کرنا، کو کوئی اعزاز عطا کرنا، کو کچھ دینا، عطا کرنا، کو کچھ انعام کے طور پر دینا۔ تَفَضَّلَ بمعنی اَفْضَلَ نیز تَفَضَّلَ ب: کی یا کرنے کی مہربانی کرنا، کرنے کے قابل یا لائق سمجھنا یا مناسب سمجھنا، نوازش، یا عزت افزائی کے طور پر کرنا۔ تَفَضَّلْ: مہربانی کر کے، مہربانی ہوگی، از راہ نوازش، از راہ کرم۔ تَفَضَّلَ: گھریلو لباس پہننا، گھر کے اطراف میں جانے کا لباس پہننا۔ فَضْلاً عن: کے پاس یا پہلو میں، اس کا تو ذکر ہی کیا۔ not to speak of, to say nothing of] let alone۔ فَضْلاً عن ذلك: اور، مزید برآں، علاوہ ازیں۔ بِفَضْلِ ــ: کی وجہ سے، کی بدولت، thnaks to, owing to, due to۔ من فضلك: از راہ کرم، از راہ نوازش۔ یرجع الفضل فی ذلك الیہ یا الفضل فی ذلك عائدٌ الیہ: اس کا سہرا اس کے سر ہے۔ لیس بالفضول أن: یہ بات زائد از ضرورت نہیں کہ۔ فضول الاحادیث: لا حاصل بات چیت، ناکارہ الفاظ۔ من فضول الکلام أن: یہ غیر ضروری بات ہوگی کہ...... یہ کہنا الفاظ کا ضیاع ہوگا کہ۔ فَضْلَة جمع فَضَلات: بقیہ، بچا کھچا، پس خوردہ، باقی، زائد، ضرورت سے زیادہ چیز، ردی، بیکار اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں، کترن، بیکار سمجھ کر پھینکی ہوئی چیز، آخور، فضلہ، بیکار گوشت (چھیچھڑے اوجھڑی وغیرہ)، ردی مال (جمع) پاخانہ پیشاب، بول و براز، فضلہ۔ فُضُول: تجسس، دخل در معقولات۔ فُضُولی: متجسس، دخل در معقولات کرنے والا، پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے والا۔ تو کون؟ میں خواہ مخواہ، بے اختیار کارپرداز، فُضُولِيَة: تجسس، خواہ مخواہ، دخل اندازی، اصرار، غیر دانش مندی۔ فَضِيل جمع فُضَلاء: نمایاں، ممتاز، بہت خوب، اول درجے کا، نہایت عمدہ، مستحق، فاضل، عالم فاضل۔ فُضَالة جمع فضالات: بمعنی فضلة: نیز گندگی تلچھٹ۔ فَضِيلَة جمع فَضَائِل: اخلاقی برتری، تفوق، فضیلت، شرف، اعلیٰ قسم، پارسائی، پاکدامنی، نیکی خیر خوبی، وصف، حق، استحقاق، فائدہ، نفع، فوقیت، غلبہ، عمدگی، خوشنمائی۔ صاحب الفضيلة: اسلامی علماء کا لقب جیسے مثلاً ریکٹر (پرنسپل یا وائس چانسلر) اور شیخ الازھر یونیورسٹی کے) نیز شیخ کے ساتھ بھی یہ لقب لگایا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: فضيلةُ الشيخ۔ فُضْلَيَاتُ السيدات: قابل احترام یا محترم خواتین۔ مِفْضَل: فائق، ممتاز، انتہائی نمایاں، بہت عمدہ، بہت فیاض، بہت فراخ دل۔ مِفْضَلَة جمع مَفَاضِل: گھر میں پہننے کا لباس، روزمرہ کا لباس۔ مِفْضَل بمعنی مِفْضَل۔ تفضيل: ترجیح، مدد اور ہمدردی کرنا، لحاظ، پاس، انتہائی عزت۔ اسم التفضيل: اسم تفضیل جیسے کریم سے اکرم۔ مُفَاضَلة: مقابلہ، موازنہ۔ تفاضل: برتری کے لئے مقابلہ (دو خدمات) میں کمیتی تفاوت، فرق۔ حساب التفاضل: احصاء تفریقی (differential calculus) تَفَاضُلِی: احصائے تفریقی کے متعلق۔ تَفَضُّل: ہمدردی، مہربانی، کرم فرمائی، لطف و کرم، نوازش، کرم، خوش اخلاقی، تواضع، شائستگی۔ فَاضِل: باقیماندہ، بچا کھچا، زائد ضرورت سے زیادہ۔ جمع فَوَاضِل: باقی، باقی ماندہ، بچا کھچا، زائد، ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ چیز، بیشی۔ (جمع فَاضِلون و فُضَلاء) نمایاں، ممتاز، بہت عمدہ، درجہ اول کا، برتر حقوق، بہت عمدہ، مستحق، عالم فاضل، تہذیب و تمدن اور ثقافت نیز شائستگی والا۔ مُفَضَّل: قابل ترجیح، ترجیح دیا گیا، زیادہ پسندیدہ، ترقی دیا ہوا (شخص)۔

فضو: ۱۔ فَضَا ـُ فَضَاءً و فُضُوًّا المكانُ: جگہ کا کشادہ ہونا، خالی ہونا صفت: فَاضٍ۔ ــــ فَضُوًّا الشجرُ بالمکان: کسی جگہ میں درختوں کی بہتات ہونا۔ أَفْضَى إفضاءً المكانُ: جگہ کا کشادہ ہونا۔ الرجُلُ: محتاج ہونا۔ ــ المكانَ: جگہ کو کشادہ کرنا۔ ــ الیہ: کے پاس پہنچنا، تک پہنچنا۔ ــــ الیہ بسرّہ: کو اپنے بھید سے آگاہ کرنا۔ ــ بفلان: کو کھلی جگہ لیجانا۔ ــ به إلى كذا: کو تک پہنچانا۔ تَفَضَّى للامر: کے لئے فارغ ہونا۔ الفَاضِي (فا): وسیع، کشادہ۔ کہا جاتا ہے: مقام فاضٍ: کشادہ مقام، خالی، باہر کو نکلا ہوا۔ ــ عند العامّة: کام سے فارغ۔ اسم الفضاوة ہے۔ فَضَاوَةُ البال: غم و فکر سے فراغی اور خالی ہونا۔ الانساء الفَاضِي: خالی برتن (عام زبان میں)۔ الفَضَاء جمع أَفْضِيَة: خلا، وسیع زمین، میدان۔ کہا جاتا ہے: مکانٌ فَضَاءٌ: کشادہ اور وسیع جگہ۔ الفضاء: زمین پر جاری پانی، بسا اوقات پائخانہ کیلئے کنایہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: ان امرھم فَضًا بینھم: ان کا کوئی امیر نہیں۔

۲۔ الفَضَا: خشک انگور کا دانہ۔ سھمٌ فَضًا: اکیلا تیر۔ طَعَام فَضَاء: ملا جلا کھانا۔

○ فَضَّی ہ: کو خالی کرنا۔ اَفْضَی اِلی: کے پاس آنا، تک پہنچنا، آنا، کے پاس پہنچنا، ــــ ب الی: کو کے پاس یا تک لیجانا، کا نتیجہ ہونا۔ ــ الی ب: کو کی اطلاع دینا، کو سے مطلع کرنا، کو کچھ بتانا۔ تَفَضَّی ل: کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لئے فرصت ہونا، کے لئے فارغ الوقت ہونا۔ فضاء: وسیع اور لامحدود کھلی جگہ۔ فضائے بسیط، خالی جگہ، کائناتی فضاء، آسمان، خلا، وسیع علاقہ، وسعت۔ سفینة الفضاء: خلائی جہاز۔ رمی بہ فی الفضاء: کو ہوا میں پھینک دینا۔ جمع أَفْضِيَة: کھلا علاقہ، زمین کا کھلا قطعہ، کھلی سرزمین، کھلا دیہاتی علاقہ۔ فِضَائِي: سفینة فضائیة: خلائی جہاز۔ فاضٍ: خالی، غیر مقبوضہ، غیر مشغول، فارغ، فراغت میں۔

فطأ: فَطَأَ ۔فَطْأً ہ: کو توڑنا۔ ۔ بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔ ۔ بہ عن رأیہ: کو رائے سے ہٹا دینا۔ فاطَأَ مُفَاطَأَةً بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔

۲۔ فَطَأَ ۔فَطْأً القومَ: قوم کے پاس ایسی چیز لانا جو اسے پسند نہ ہو۔

۳۔ فَطِئَ ۔فَطَأً: دھنسی ہوئی پیٹھ اور ابھرے ہوئے سینے والا ہونا۔ صفت: أَفْطَأُ م فَطْآء جمع فُطْءٌ۔ الفُطْأَة: پیٹھ کا دھنسا اور سینہ کا ابھرا ہوا ہونا۔

۴۔ أَفْطَأَ إفْطَاءً: فراخ حال ہونا۔ ۔ فلاناً: کو کھلانا۔

۵۔ أَفْطَأَ إفْطَاءً: بدخلق ہونا۔

۶۔ تَفَاطَأَ: سینہ ابھارنا اور پیٹھ دھنسانا۔ ۔ عنہ: سے پیچھے ہٹنا۔ ۔ عن القوم: شکست کھانا اور حملہ آور ہونے کے بعد لوگوں سے لوٹ آنا۔

فطح: ۱۔ فَطَحَ ۔فَطْحًا و فَطَّحَ الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔ ۔ العودَ: لکڑی کو چھیل کر چوڑا کرنا۔ ۔ ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ فَطِحَ ۔فَطَحًا رأسُہٗ أو أنفُہٗ: سر یا ناک کا چوڑا ہونا۔ صفت: أَفْطَحُ۔ رأسٌ مُفَطَّحٌ: چوڑا سر۔

۲۔ الفِطَحْل جمع فَطَاحِل: بڑا سیلاب۔ جَمَلٌ فِطَحْلٌ: موٹا اونٹ۔ زمنُ الفِطَحْلِ: بہت پرانا زمانہ، لوگوں نے کہا کہ وہ زمانہ جس میں لوگ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ فَطَاحِل العلماء: بڑے علماء۔

○ فَطَحَ ۔فَطْحًا و فَطَّحَ ہ: کو پھیلانا، چوڑا اور چپٹا کرنا، ہموار کرنا۔ أَفْطَحُ و مُفَطَّح: چوڑے سر والا، چوڑی ناک والا۔ فَطَاحِل: (فِطَحْل کی جمع): اہم، نمایاں، ممتاز سرکردہ لوگ یا شخصیات، مشہور شخصیات، ستارے۔ زمن الفِطَحْل: قدیم زمانہ قبل از آدم زمانہ۔

فطر: ۱۔ فَطَرَ ۔فَطْرًا الشیءَ: کو پھاڑنا۔ ۔ نابُ البعیر: اونٹ کے دانت ظاہر ہونا، نکلنا۔ ۔ اصبعَ فلانٍ: کی انگلی پر مارنا جس سے خون نکلنے لگنا۔ ۔ الرجُلُ الشاةَ: انگلیوں کے اطراف سے بکری کو دوہنا۔ فَطَّرَ الشیءَ: کو پھاڑنا۔ تَفَطَّرَ و انْفَطَرَ: پھٹنا۔ ۔ ت الارضُ بالنبات: زمین کا پھٹ کر نباتات نکالنا۔ ۔ القضیبُ: شاخ کے پتوں کا نکلنا شروع ہونا۔ الفَاطِر (فا): جس کے دانت نکل آئے ہوں۔ الفَطْر (مص): بکری یا اونٹنی کا انگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔ ۔ جمع فُطُور: پھٹن۔ الفِطْر: انگور جب کہ اس کے سرے ظاہر ہوں۔ الفُطْر: فِطَر۔ ۔ واحد فُطْرَة: نباتات۔ (ن): سانپ کی چھتری کی ایک قسم۔ ۔ الزراعی (ن): ایک پودا، (کھمبی، چھتری، کنار، کھرھتا، کلاہ باران)۔ سیفٌ فُطَارٌ: کند تلوار۔ الفُطَارِي: بے نفع آدمی۔ الأُفْطُور جمع أَفَاطِير: ناک اور چہرے میں پھٹن۔ الفَطِیر: تازہ دودھ۔ المَفْطَرة جمع مَفَاطِر (ز): کھیت جس میں کنار، کھمبی اگائی جاتی ہے۔

۲۔ فَطَرَ ۔فَطْرًا الأمرَ: کو پیدا کرنا، شروع کرنا۔ اِفْتَطَرَ الامرَ: کو اختیار کرنا، ایجاد کرنا۔ الفِطْرَة جمع فِطَر: اختراع۔ وہ صفت جس سے ہر موجود شے اپنی ابتدائی پیدائش میں متصف ہو۔ انسان کی طبعی صفت، دین، سنت۔

۳۔ فَطَرَ ۔فَطْرًا العجینَ: خمیر ہونے سے پہلے روٹی پکانا۔ الفَطِیر: ہر وہ چیز جو وقت سے پہلے جلدی میں کی جائے۔ کہا جاتا ہے: ھذا رأیٌ فَطِیرٌ: بدیہی رائے جو بغیر سوچے دل میں آئے۔ عیدُ الفَطِیر: یہود کی ایک عید۔ عجینٌ فَطِیرٌ: بے خمیر گندھا ہوا آٹا۔ خُبزٌ فَطِیرٌ: تازہ روٹی۔ الفَطِیرَة جمع فَطَائِر (ط): بے خمیر روٹی، میٹھی پیسٹری، کیک جیسی سفید روٹی (جو انڈوں اور مکھن سے تیار کی گئی ہو)۔

۴۔ فَطَرَ ۔فَطْرًا و فِطْرًا و فُطُورًا الصائمُ: روزہ دار کا افطار کرنا۔ فَطَّرَ الصائمَ: روزہ دار کو افطار کرانا، کو ناشتہ دینا۔ أَفْطَرَ الصائمُ: روزہ دار کا کھانا اور پینا، کے افطار کا وقت قریب آنا۔ صفت: مُفْطِر جمع مَفَاطِیر: کہا جاتا ہے: قومٌ مَفَاطِیرُ: وہ لوگ جو کھائیں اور پئیں یا ان کے افطار کا وقت قریب آجائے۔ ۔ الصائمَ: روزہ دار کا روزہ افطار کرانا، کو ناشتہ دینا۔ الفَاطِر: بے روزہ (عام زبان میں)۔ الفِطْر (مص): عیدالفِطْر: رمضان کے روزوں کے بعد مسلمانوں کی عید۔ الفَطُور و الفَطُورِیّ: افطاری، ناشتہ۔ الفُطُور: نصف النہار یا دن کے شروع کے اوقات میں کھایا جانے والا کھانا (عام زبان میں)۔

○ فطَر [illegible] پھاڑنا، [illegible] دینا، توڑ کر جدا کر دینا۔ ۔ فُطُورًا: روزہ کھولنا، افطار کرنا، افطاری کرنا، روزہ کے بعد کھانا پینا، ناشتہ کرنا۔ ۔ فَطْرًا ہ: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو بنانا، خلق کرنا، وجود میں لانا۔ ۔ ہ علی: اللہ تعالیٰ کا کسی کو کوئی (خوبی وغیرہ) عطا کرنا۔ فُطِرَ علی: کیلئے طبعی میلان رکھنا۔ فُطِرَ علی: کی فطرت میں ہے۔ أَفْطَرَ: روزہ کھولنا، روزہ افطار کرنا، ناشتہ کرنا۔ تَفَطَّرَ: پھٹنا، دو ٹکڑے ہونا، ٹوٹنا۔ اِنْفَطَرَ بمعنی تَفَطَّرَ نیز اِنْفَطَرَ بالبُکاء: رونے لگنا۔ فَطْر جمع فُطُور: شگاف، درز، فتق، پھٹنا۔ فِطْر: افطار۔ صَدَقَةُ الفِطْر: رمضان کے بعد دی جانے والی خیرات۔ فُطْر: اسم جنس (واحد فُطْرَة)، سماروغ (fungi)، کھمبیاں۔ فُطْرِی: کھمبی کی طرح پیدا ہونے والا، کھمبی کا سا۔ فُطْرِیَات: طفیلی کھمبیاں، کھمبیاں، کھمبیوں کی کاشت۔ المرضُ الفطری: داد جیسی بیماری mycosis۔ فِطْرَة: تخلیق، نیچر طبیعت، طبعی رجحان، فطری میلان، جسمانی ساخت، فطرت، مزاج طبیعت، افتاد طبع، پیدائشی، خلقی یا جبلی کردار، جبلت، وجدان، حیوانی عقل۔ فِطْرَةً: طبیعت کے لحاظ سے۔ فِطْرِی: طبیعی، فطری، قدرتی، جبلی، پیدائشی، خلقی۔ الانسانُ الفطری: جنگلی انسان۔ الدیاناتُ الفِطریة: فطری مذاہب، فطری ادیان۔ فُطُور: ناشتہ۔ فَطِیر: بے خمیر، خام، کچا، ناپختہ، تازہ، نیا، نیا بنایا ہوا، بے خمیر روٹی۔ فَطَایِری جمع فَطَایِرِیَّة اور فَطَاطِری جمع فَطَاطِرِیَّة: پیسٹری یا انڈوں اور مکھن سے تیار کردہ سفید روٹیاں بنانے یا بیچنے والا۔ افطار: روزہ کھولنا، ناشتہ، رمضان میں سورج غروب ہونے کے بعد پہلا کھانا۔ الفَاطِر: خالق (سبحانہ و تعالیٰ)۔

فطس: ۱۔ فَطَسَ ۔فُطُوسًا: مرجانا۔ صفت: فَاطِس۔ ۔ فَطْسًا: دم گھٹنا (عام زبان میں)۔ فَطَّسَ ہٗ: کو مار ڈالنا۔

۲۔ فَطَسَ ۔فَطْسًا و فَطَّسَ ہٗ بالکلمة: کوئی بات کے روبرو کہنا، کے منہ پر کہنا۔

۳۔ فَطَسَ ۔فَطْسًا الحدیدَ: لوہے کو چوڑا کرنا۔ فَطِسَ ۔فَطَسًا: چپٹی ناک والا ہونا۔ صفت: أَفْطَس: چپٹی ناک کو بھی أَفْطَس (م فَطْساء جمع فُطْس) کہتے ہیں۔ الفَطَسَة: ناک کا چپٹا پن۔ الفِطِّیس جمع فَطَاطِیس: بڑا ہتھوڑا۔ الفِطِّیسَة: سور کی تھوتھنی، سونڈ، انسان کا ہونٹ، ہر درندہ اور کھر والے جانور کی تھوتھنی، ناک۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۴۔ الفَطَس (واحد فَطَسَة): حَبُّ الآس۔ الفَطَسَة:
مہرہ جس کا تعویذ بنایا جائے۔
○ فطَسَ ہٗ: کو مارڈالنا، کو گلا گھونٹ کر مارنا۔ اِنفَطَسَ:
ناک کا چپٹا ہو جانا۔ فطیس: گلا گھونٹا ہوا، دم رکا ہوا،
سانس رکا ہوا، مارڈالا ہوا۔ فَطِیسَة جمع فَطَائِس:
لاش، مرا ہوا جانور، مردار، جانور کی بے سر کی لاش۔
أفطَس: چپٹی ناک والا۔
فطم: فَطَمَ ـ فَطْمًا الولدَ: بچے کا دودھ چھڑانا۔ —
الحبلَ: رسی کو کاٹ دینا۔ — ہٗ عن العادة: کو عادت
سے روکنا، منع کرنا، کی عادت چھڑانا۔ کہا جاتا ہے:
لأفطِمَنَّكَ عما انت عليه: میں تمہاری لالچ کو منقطع
کردوں گا۔ فَطَمَ الشجرُ: درخت پر پھل نہ رہنا۔
— الموسمُ: موسم کا ختم ہو جانا (عام زبان میں)۔
أفطَمَ الرضيعُ: شیر خوار بچے کے دودھ چھڑانے کا
وقت آجانا، بچے کا دودھ چھڑانے کے قریب ہونا۔
تَفَاطَمَ القومُ: ایسے مویشیں کے بچے والا ہونا جو
دودھ چھڑانے کے بعد اپنی ماؤں سے لپٹے رہیں۔
اِنفَطَمَ: دودھ چھٹنا۔ — عنه: سے رکنا، باز رہنا۔
ناقة فَاطِمٌ و فاطِمَة: وہ اونٹنی جس کا بچہ دودھ سے
چھڑا دیا گیا ہو۔ الفِطَام: بچے کا دودھ چھڑانا، دودھ
چھڑانے کا زمانہ۔ فِطَامُ القزِّ عند مُرَبّي دُودِهِ:
(ریشم کے کیڑے پالنے والوں کے نزدیک)، کیڑوں
کو کھلانے کے بعد ریشم کے گولے بنانے کے لئے
چھوڑ دینا۔ الفَطِيم جمع فُطُم: دودھ چھڑایا ہوا
(بچہ)۔ الفَطِيمَة: وہ بکری جس کا بچہ دودھ سے چھڑا
دیا گیا ہو۔
○ اِنفَطَمَ: دودھ چھڑایا جانا۔ — عن: سے باز رہنا،
الگ رہنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا۔ فَاطِمِي (صفت
واسم) فاطمی جمع الفاطميون: (حضرت فاطمہ
رضی اللہ عنہ سے نسبت رکھنے والا)۔
فطن: فَطَنَ ـ و فَطُنَ ـ و فَطِنَ ـ فَطْنًا و فِطْنًا و فُطْنًا
و فَطَنًا و فُطُنًا و فِطْنَةً و فَطَانَةً و فَطَانِيَةً و
فُطُونَةً و فَطَانِيَة و فِطَانِيَةً للامر و به و إليه: کا
ادراک کرنا، سمجھنا، میں ماہر ہونا۔ فَطَّنَ ہٗ بالامر و لهٗ
و إليه: کو، کا ادراک کرانا، کو کچھ سمجھانا۔ — التلميذَ:
شاگرد کو سمجھدار بنانا۔ فَاطَنَ مُفَاطَنَةً ہٗ بالكلام: کو
سمجھانے کے لئے بات کو لوٹانا۔ تَفَطَّنَ لكلامِهِ: کو
سمجھ لینا۔ کہا جاتا ہے: تَفَطَّنُ لما اقول لك: میں
جو تجھے کہتا ہوں اسے سمجھ لے۔ الفَاطِن و الفَطِن و
الفَطِين و الفُطُون و الفُطُن و الفَطْن جمع فُطُن
و فُطْن: زیرک، سمجھدار۔ الفِطْنَة جمع فِطَن:
مہارت، سمجھ۔ الفَطُونَة: زیرک، سمجھدار، ہوشیار۔
○ فَطِنَ ـ و فَطَنَ ـ و فَطُنَ ـ فِطْنَةً: ہوشیار یا چالاک
ہونا یا ہو جانا، تیز فہم، ذہین یا تیز طبع ہونا یا ہو جانا،
دانشمند یا زیرک ہونا یا ہو جانا، دانا یا سمجھدار ہونا یا ہو
جانا، صاحب فراست، عاقل و فہیم ہونا یا ہو جانا۔
إلى/ل/ب: کا دھیان کرنا، کو پوری طرح سمجھ لینا،
ذہن نشین کرنا، سمجھنا، کا ادراک کرنا، سے آگاہ، واقف
یا باخبر ہونا یا ہو جانا۔ — الى: کے متعلق رائے رکھنا۔
فَطَّنَ ہٗ: کو سمجھدار بنانا۔ — ہٗ إلى/ل/ب: کو کا
ادراک کرانا، کچھ سمجھانا، ذہن نشین کرانا۔ — ہٗ إلى
/ل/ب: سے کی وضاحت کرنا، کو کی یاد دہانی کرانا۔
تَفَطَّنَ لِ: کو سمجھ لینا، کا ادراک کرنا۔ فَطِن و فَطِين
(جمع فُطَنَاء): ہوشیار، چست و چالاک، ذہین
زیرک، صاحب فراست، عاقل، فہیم، سمجھدار۔ فِطْنَة
جمع فِطَن: چالاکی، ہوشیاری، عیاری، زیرکی، تیز
فہمی، فراست، ژرف نگاہی، بصیرت، تیز نگاہی، ذکا،
دقیقہ رسی، باخبری، واقفیت۔ فَطَانَة: ہوشیاری،
چالاکی، پھرتی، تیز فہمی۔ تَفَطُّن: باخبری، واقفیت،
ذہانت، سمجھ، فہم، فراست۔
فطو: فَطَا ـ فَطْوًا الدابةَ: جانور کو تیز ہانکنا۔
فظّ: ا۔ فَظَّ ـ فَظَاظَةً و فِظَاظًا و فَظَظًا: سخت کلام اور
بدخلق ہونا۔ — ـ فَظًّا و افتَظَّ: جنگلوں میں اوجھ کا
پانی نچوڑنا اور پینا اور یہ اس طریقہ پر ہوتا ہے کہ اونٹوں
کو سیراب کر لیتے ہیں اور پھر ان کے منہ کو باندھ دیتے
ہیں تاکہ جگالی نہ کرنے پائیں اور پھر جب پیاس لگتی
ہے تو اونٹ کا پیٹ چاک کر کے اوجھ کو نچوڑتے اور
پیتے ہیں۔ الفَظّ (مص) جمع أفظَاظ: بہت
بدخلق اور سخت کلام شخص۔ — جمع فِظَاظ و فُظُوظ:
اوجھ کا پانی جو جنگلوں میں اونٹ کی اوجھ سے نچوڑ کر پیا
جاتا ہے۔ (ح): بری شکل و صورت کا ایک آبی
درندہ، اس کے نر کے بالائی جبڑے میں دو لمبے لمبے
دانت ہوتے ہیں، سمندری گھوڑا walrus۔
الفَظَاظَة: تکرار۔
○ فَظّ جمع أفظَاظ: اکھڑ، ناشائستہ، گستاخ، منہ پھٹ،
بدتہذیب، بے ڈھنگا، بھونڈا، اکھڑ، گنوار، اجڈ، غیر
تعلیم یافتہ۔ فَظَاظَة: اکھڑپن، ناشائستگی، گستاخی، بد
تہذیبی، بھونڈاپن، گنوارپن۔
فظع: ا۔ فَظِعَ ـ فَظَعًا فلانٌ بالأمر و من الامر: کام
کو بڑا سمجھنا اور اس کو انجام دینے کی استطاعت کے
بارے میں اعتماد نہ کرنا۔ فَظُعَ ـ فَظَاعَةً الامرُ: کی
قباحت بڑھ جانا، قباحت میں حد سے گذر جانا۔
صفت: فَظِع و فَظِيع۔ فَظَّعَ الامرَ: کو قبیح بتانا،
میں مبالغہ کرنا۔ أفظَعَ الامرُ: کی قباحت بڑھ جانا۔
— ہٗ: کو سخت امر قبیح میں ڈالنا۔ — الامرَ: کو قبیح پانا۔
أُفظِعَ: کو مصیبت آپڑنا۔ تَفَظَّعَ و اِستَفظَعَ الامرَ:
کو قبیح پانا۔
۲۔ فَظِعَ ـ فَظَعًا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ الفَظِيعُ:
خوشگوار پانی یا آب زلال۔
○ فَظُعَ ـ فَظَاعَةً: کریہ، نفرت انگیز، سخت نفرت انگیز،
قابل نفرت، سخت بدنما، گھناؤنا، بدصورت، سخت برا،
وحشیانہ، ظالمانہ، خبیث نابکار، بے درد، خوفناک یا
دہشتناک ہونا یا ہو جانا۔ اِستَفظَعَ ہٗ: کو کریہ، نفرت
انگیز، قابل نفرت، سخت برا، سخت بدنما، گھناؤنا،
بدصورت، وحشیانہ، ظالمانہ، بے درد، خوفناک،
دہشتناک پانا، کو قابل نفرت، سخت برا، مکروہ پانا۔
فَظِع و فَظِيع: کریہ، نفرت انگیز، سخت نفرت انگیز،
قابل نفرت، سخت بدنما، گھناؤنا، بدصورت، سخت برا،
وحشیانہ، ظالمانہ بے درد، خوفناک، دہشتناک۔
فَظَاعَة: مکروہ پن، نفرت انگیزی، گھناؤنا پن، ہیبت
ناکی، بدصورتی کراہت، تنفر، استکراہ، وحشت ناکی،
انتہائی حماقت، بدتہذیبی، پاجی پن، ڈراؤنا پن،
وحشت انگیزی، دہشت، خوف، بدحواسی، جمع فظائع:
فظائع: مظالم، سفاکیاں۔ مُفظِع بمعنی فَظِع و
فَظِيع۔
فظی: أفظَى إفظَاءً الرجلُ: بدخلق ہونا۔
فع: فَعفَعَ فَعفَعَةً بالغنم: بکریوں کو فع فع کہہ کر ڈانٹنا
صفت: فعفاع و فَعفَع۔ تَفَعفَعَ الرجلُ فی امره:
میں جلدی کرنا۔
فعل: ا۔ فَعَلَ ـ فَعْلًا: کرنا، بنانا۔ اس سے اسم فعل ہے۔
فَعَّلَ البيتَ الشِعريَّ: کی تقطیع کرنا اور وزن تقطیع
کا ایسے اجزاء سے ہو جس کا مادہ ف ع ل ہے۔
اِنفَعَلَ: ہو جانا ہونا، متاثر ہونا۔ اِفتَعَلَ الشيءَ: کو
ایجاد کرنا۔ — الخطَّ: میں جعلسازی کرنا۔ کہا جاتا ہے:
اِفتَعَلَ عليه زورًا و كذبًا: اس نے اس پر جھوٹ و
بہتان باندھا۔ الفِعل جمع فِعَال و أفعَال و جمع
أفاعيل: عمل، کام۔ الفَعلَة: فعل کا اسم مرة۔
کہا جاتا ہے: كانت منه فَعلَة حسنة او سيئة:
اس سے ایک اچھا یا برا کام ہو گیا۔ الفِعلَة: عادت۔
فَعَالِ: اسم فعل امر کے معنی میں یعنی اِفعَلْ (کر)۔
الفَعَال: اچھا کام، کرم، کبھی شر میں بھی استعمال ہوتا
ہے جس طرح خیر میں۔ الفِعَال: فعل کی جمع۔ جس
کو بہت سے آدمی کریں۔ الفَاعِل جمع فاعِلون و

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فَعَلَه م فاعِلة جمع فاعِلات و فوَاعِل فا۔ جمع فَعَلَة: جسے روز زمین میں یا کسی اور جگہ کام کرنے پر لگایا جاتا ہے۔ التفاعل الكيماوى (ك): کیمیاوی ترکیب، عمل، کیمیاوی تاثیر و تاثر۔ الافاعيل و التفاعيل عند العروضيين: علم عروض کی اصلاح میں اشعار کے اوزان اور وہ چار ہیں۔ فَعُولُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعَلَتُنْ و فَاعِلاتُنْ اور بقیہ اوزان ان ہی چاروں سے ماخوذ ہیں۔ المُفتعَل (مفع): ہر وہ چیز جو بغیر مثالِ سابق کے بنائی جائے۔ کہا جاتا ہے: جاء فلانٌ بالمُفتعَل: فلاں نے بڑا کلام کیا۔ شِعْر مُفتعَل: عجیب و غریب شعر۔ ـــــ فِعال الفأسِ: کلہاڑے کا دستہ۔

فعل -فَعْلاً ہ کچھ کرنا۔ ـــ کام کرنا، عمل کرنا، کوئی سرگرمی انجام دینا۔ ـ فی ب پر اثر و نفوذ رکھنا، تاثیر رکھنا، کو متاثر کرنا، کو کام میں لانا، استعمال کرنا، پر اثر انداز ہونا۔ ـ ب ہ: سے کچھ کرنا۔ ـــ ہ فی: کے ساتھ کچھ کرنا۔ فعل فيه فعلاً كريهًا: پر ناخوشگوار تاثر یا اثر رکھنا۔ فَعَّل ہ: شعر کی تقطیع کرنا۔ تفاعَل: باہم گر اثر انداز ہونا یا عمل کرنا، باہمی عمل کرنا۔ ـ مع: کے ساتھ ملنا، یکجا ہونا۔ ـ: دھڑے، اکیلے یا اتحاد میں شامل ہونا۔ اِنفعَل: ہونا۔ لِ: سے متاثر ہونا، سے اثر پذیر ہونا، کے زیر اثر ہونا۔ ـــ: مضطرب ہونا، برانگیختہ ہونا، مشتعل ہونا، برہم ہونا، پریشان ہونا، درہم برہم ہونا۔ اِفتعَل كِذبًا على: کے خلاف جھوٹ گھڑنا، تراشنا، ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ ـــ ہ: (کچھ جیسے تحریر میں) جعلسازی کرنا، کو جعلی بنانا یا کرنا۔ ـــ ہ: کو ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ فِعْل: عمل، سرگرمی، کرنا، کام، وظیفہ، فرض منصبی جمع أفْعَال و فِعَال: کام کار، فعل، عمل، اثر، تاثر، تصادم، ٹکر۔ جمع افعال: فعل (گرامر) جمع افَاعِيل: عظیم کارہائے، کارنامے، کارہائے نمایاں، پھرتی یا چالاکی کے کام، جوڑ توڑ، ریشہ دوانیاں، فتنہ پردازیاں۔ فِعلاً یا بالفعل: فی الحقیقت، دراصل، فی الواقع، البتہ، ضرور، بلاشک، عملاً، واقعی، عملی طور پر۔ بِفِعْلِ ......: کے باعث، کی وجہ سے۔ فِعْلِی: واقعی، اصلی، حقیقی، واقعاتی، کاری، کارگر، موثر، تیر بہدف، مجرب، یقینی اثر کرنے والا، زود اثر، تاثیر بخش، عملی، بالفعل، فی الواقع، حقیقت میں، درحقیقت، فعل کا (گرامر)۔ فَعْلَة: کام، کار، فعل، عمل۔ فَعَّال: کاری، کارگر، موثر، تیر بہدف، مجرب، زود اثر۔ فَعَّالِيَة: اثر آفرینی، تاثیر، اثر، مستعدی، تیزی، پھرتی، سرگرمی۔ افْعَل: زیادہ کارگر، موثر، تیر بہدف یا زیادہ یقینی اثر کرنے والا۔ تفاعل: باہم گر عمل، باثر، باہمی عمل، تعامل۔ کیمیاوی مرکب کی تشکیل، کیمیائی عمل، کیمیاوی تاثیر و تاثر۔ اِنفعال: تأثر، بے حرکت ہونا، حالت جمود، تحریک، ہیجان، جلن جمع اِنفعَالات: تحریک، حرکت، اضطراب، جوش، اشتعال، کھلبلی، ہلچل، ہنگامہ، بے قراری، بےکلی۔ اِنفِعَالی: اشتعال پذیر، زود رنج، تنگ مزاج، چڑچڑا، جلد غصہ میں آجانے والا، پُر احساس، جذباتی، قلبی کیفیات سے متعلق۔ اِنفِعَالِية: اشتعال پذیری، تنگ مزاجی، چڑچڑاپن، زود رنجی۔ فَاعِل: موثر، اثر آفرین، یقینی تاثیر رکھنے والا، کارگر، کارگزار۔ جمع فاعِلون: کرنے والا، اداکار، مرتکب جمع فَعَلَة: کام کرنے والا، کارکن، مل مزدور، مزدور، محنت کش۔ فَاعِل (گرامر): اسم الفاعل: اسم فاعل (گرامر)۔ ذُورَادِيُوم فَاعِل: تابکار (radioactive)۔ مَفعُول: مفعول (گرامر)۔ مفعول به: مفعول (گرامر۔ جمع مَفَاعِيل: اثر، تاثر، تصادم، ٹکر، اثر آفرینی، قانونی طور پر جائز ہونا، معقول ہونا۔ اسم المفعول: اسم مفعول (گرامر)۔ سرى مَفعُولُهُ: مؤثر ہونا یا ہوجانا۔ ـــ على: کے لئے قانونی ہونا یا ہوجانا۔ سَارِيُ المَفعُول: قانونی، ضابطہ کے مطابق، قانوناً مکمل۔ مَفعُول رَجْعِيّ: شعاع تابی، گرمتابی، شعاع کا انجذاب، تابکاری (radioactivity)۔ مُنفَعِل: برانگیختہ، مشتعل، جوش میں، پرجوش، گھبرایا ہوا، مضطرب، پریشان، چڑچڑا، زود رنج، تنگ مزاج، جلد غصے میں آجانے والا۔ مُفتعَل: مصنوعی، بناوٹی، جعلی۔

فعم: فَعَمَ -فَعْمًا الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ ـــ و فَعِمَ -فَعْمًا الرجُلَ: کو غضبناک کرنا۔ فَعُمَ -فَعَامَةً و فُعُومَةً الإناءُ او الساعدُ: برتن یا بازو کا بھر جانا۔ صفت: فَعْمٌ اور فَعْمَل: (لام زائد لگانے سے) کہا جاتا ہے: هو فعمُ الأوصَال: وہ تنومند ہے، بھرے ہوئے اعضاء والا ہے۔ فَعَّمَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ أفعَمَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ ـــ المسْكُ البيتَ: گھر کو مہکانا، خوش بو سے بھر دینا۔ ـ الرجُلَ: کو خوشی سے بھر دینا، خوش کرنا، غضبناک کرنا۔ اِفْعَوْعَمَ: بھر جانا، بہہ پڑنا، چھلک جانا۔ سيل مُفعَمٌ: لبالب سیلاب۔

أُفْعَمَ ہ ب: کو سے بھرنا، لبالب بھرنا، مجمع کا راستہ روک لینا۔ مُفْعَم ب: سے لبالب بھرا ہوا، سے پورا بھرا ہوا، سے پُر، سے لبریز، سے حد سے زیادہ بھرا ہوا، سے چھلکتا ہوا، پھوٹ کر بہتا ہوا، سے مکمل طور پر بھرا ہوا۔

فعی: ۱۔ فَعَّى تفْعِيَةً الجملَ: اونٹ پر سانپ کی شکل کا نشان بنانا۔ تَفَعَّى: بدخلقی میں سانپ کی طرح ہونا۔ الفاعِی: غصہ میں جھاگ نکالنے والا۔ الفاعِيَة: الفاعی کا مؤنث، چغل خور عورت۔ الأفعَى جمع افَاعٍ (ح): خبیث قسم کا سانپ، اس کی قسمیں ہیں جو سب کی سب زہریلی ہوتی ہیں۔ الافاعِي (ع ا): رگیں جو بن ران کی رگ سے پھیلتی ہیں۔ الأُفْعُوان (ح): نر سانپ۔ ارضٌ مُفْعَاة: سانپوں والی سر زمین۔ المُفَعَّاة: سانپ کی شکل کا نشان۔

۲۔ الفاعِية: حنا کے پھول۔ الافعَاء: خوشبوئیں۔

فغ: فَغَّ -فَغَّةً الطيبُ: خوشبو مہکنا، خوشبو بھڑکنا۔ کہا جاتا ہے: فَغَّتنِي الرائحة فغا: مجھ پر بہترین خوشبو مہکی۔

فغر: ۱۔ فَغَرَ -فَغْرًا فاهُ: منہ کھولنا۔ ـ فوهُ: کا منہ کھلنا۔ اِنفغَرَ فوهُ: منہ کھلنا۔ ـ النوْرُ: کلی کھلنا۔ الفغر (مص): گلاب کا کھلا ہوا پھول۔ کہا جاتا ہے: رجُل واسع فغرِ الفم: کشادہ دروازے والا۔ الفَغرَة: اسم مرة۔ کہا جاتا ہے: وُلِدَ بالفغرة: وہ ثریا کے طلوع ہونے کی ابتدا میں پیدا ہوا۔ یہ جاڑے کے زمانہ میں ہوتا ہے۔ الغفرة جمع فغر: وادی کا دہانہ۔ الفاغِرَة (ح): پرندہ۔ المَفْغَرَة: وسیع زمین، پہاڑ کا شگاف (غار سے چھوٹا)۔

۳۔ الفاغِرَة: ایک قسم کی خوشبو۔

فغفوری: عمدہ چینی کی مٹی (کے برتن)

فغم: ۱۔ فَغَمَ -فَغْمًا و فغومًا الطيبُ فلانًا: کی ناک کو خوشبو سے بسا دینا۔ أفْغَمَ المكانَ: جگہ کو خوشبو سے بسا دینا۔ ـــ الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ ـــ الرجُلَ: کو خوشی سے بھر دینا۔ اِنفغَمَ المكانُ: جگہ کا خوشبو سے بھر جانا۔ الفغم (مص): کھانے کا وہ حصہ جو دانتوں سے نکالا جاتا ہے۔ فَغْمَةُ الطيب: خوشبو کی بھڑک۔ المَفغوم (مفع): زکام میں مبتلا۔ شيءٌ مَفغوم: خوشبو سے بسی ہوئی چیز۔

۲۔ فَغَمَ -فُغُومًا و تفغمَ الوردُ: گلاب کا پھول کھلنا۔ اِنفغَمَ و اِفتغَمَ الزكامُ: زکام کا اچھا ہونا۔

۳۔ فَغَمَ -فَغْمًا و فُغُومًا و فَاغَمَ مُفَاغَمَةً فلانًا: کا بوسہ لینا۔ تفَاغَمَ: ایک دوسرے کو بوسہ دینا۔ الفُغُم و الفغم: منہ، ٹھوڑی مع جبڑوں کے۔

۴۔ فَغِمَ -فَغَمًا بالشيءِ: کا مشتاق ہونا، حریص ہونا۔ ـ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ الفَغِم: حریص۔ کہا جاتا ہے: كلبٌ فَغِمٌ على الصيد: شکار کا حریص

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کیا۔ المُفغم (مفع): شائق، شوقین، متمنی، کی محبت میں گرفتار، مشتاق، خواہش مند۔ کہا جاتا ہے: هو مفغم به: وہ اس کا مشتاق ہے۔

فغو: ۱۔ فغا ـفغوًا الامرُ: پھیلنا۔ أفغى الريحانُ: خوشبودار پودے کا شگوفہ دار ہونا۔ ـ الشجرُ: درخت میں کلی کھلنا۔ الفغو (مص): حنا کا پھول۔ الفغوة: خوشبو۔ کہا جاتا ہے: فغوة الطيب: خوشبو کی بھڑک۔ الفاغية: حنا کی کلی، حنا کی ٹہنی جو الٹی لگائی جانے پر حنا سے زیادہ خوشبودار پھول دے، ہر خوشبودار کلی۔

۲۔ فغا ـفغوًا الزرعُ: کھیتی کا خشک ہونا۔ أفغى فلانٌ: تمول کے بعد محتاج ہونا، حسن کے بعد بدصورت ہونا، طاعت کے بعد نافرمان ہونا۔ ـ هُ: کو غضبناک کرنا۔

فق: ۱۔ فقفق تفقفقة: سخت محتاج ہو۔

۲۔ فقفق فقفقةً الكلبُ: کتے کا ڈر کی وجہ سے بھونکنا۔ ـ ت القِدرُ: ہانڈی ابلنے سے بلبلے نکلنا جن کی آواز سنی جائے (سریانی عام زبان)۔ ـ و تفقفق الرجُلُ في كلامه: بات حلق سے نکالنا۔ فقفقةُ الماء: پانی ٹپکنے اور بہنے کی آواز۔ الفقفاق و الفقفاقة: بے وقوف بکواس کرنے والا۔

فقا: فقا ـفقًا و فقًا تفقئة الدُمَّلَ: پھوڑے کو چیرنا (پیپ نکالنے کے لئے)۔ ـ العينَ: آنکھ پھوڑنا۔ ـ فلانٌ ناظرَيه: کا غضب دور کرنا۔ تفقأ: چرنا، پھٹنا، شگاف ہونا۔ ـ فلانٌ شحمًا: چربی سے بھر جانا۔ إنفقأ: آنکھ کا نکل جانا، پھٹنا، چرنا۔ الفقء جمع فقوء: وہ باریک سی جھلی جو جنین کے سر یا ناک کے اردگرد ہوتی ہے اور ولادت کے وقت پھٹ جاتی ہے۔ ـ الفقيء جمع فقآن: پتھر کا گڑھا، سخت زمین کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔ الفقاة و الفاقئاء: بمعنى الفقيء۔

۞ فقأ ـفقأً ه: (آنکھ) نکال باہر کرنا۔ (پھوڑے، دنبل) کو نشتر سے کھولنا۔ فقاعينه: (دشمن یا مخالف) پر کاری ضرب لگانا، کو تباہ و برباد کر دینا۔ تفقأ: پھٹنا، بھک کرنا، بھک سے اڑنا، دھماکے سے پھٹنا۔

فقح: ۱۔ فقح ـفقحًا و فقح الجروُ: کتے کے پلے کا آنکھیں کھولنا۔ ـ النباتُ: نباتات کا کلی دار ہونا، شگوفہ کھلنا۔ تفقّح: گفتگو میں کھل جانا، کھل جانا۔ الفقحة جمع فقاح: دبر کا حلقہ۔ ـ من النبت: کلی۔ ـ والفقاحة: ہتھیلی۔ الفقّاح من كل نبت: کلی۔

تفقّح للشر: شر پر آمادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ متفقح: فلاں شخص شر پر آمادہ ہے۔

۳۔ تفافح القوم: ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کرنا۔

فقد: فقد ـفقدًا و فِقدانًا و فُقدانًا و فقودًا ه: سے گم ہونا، کو نہ پانا۔ أفقدهُ الشيءَ: سے کو گم کرانا۔ تفقّدهُ: گمشدہ کی تلاش کرنا۔ تفاقد القومُ: بعض کا بعض کو کھو دینا۔ إفتقدهُ: کو گم کرنا۔ کہا جاتا ہے: ما إفتقدتهُ منذ إفتقدتُهُ: جب سے میں نے اسے گم کیا ہے، تلاش نہیں کیا۔ کو گم کرنے کے بعد تلاش کرنا۔ ـ و استفقد المريضَ: بیمار کی عیادت کرنا (عام زبان میں)۔ الفاقِد (فا): وہ عورت جس کا شوہر یا بیٹا مر گیا ہو۔ الفقيد: گم شدہ۔ کہا جاتا ہے: مات غير فقيد او غير مفقود: وہ مر گیا کسی نے اس کے مرنے کی پرواہ نہیں کی۔

۞ فقدَ ـفقدًا و فقدانًا و فُقدانًا ه/ ه: کو نہ پانا، کو کھو دینا، کو نہ رکھنا، سے محروم ہونا۔ ـ ه: کی موت سے غمگین ہونا۔ ـ ه: کو کہیں رکھ کر بھول جانا، (موقع) گنوانا۔ فقد صوابه: پاگل ہو جانا۔ افقده ه: سے کچھ گنوا دینا، کو سے محروم کرنا۔ تفقده ه: کو تلاش کرنا، طلب کرنا۔ ـ ه: کا جائزہ لینا، کا مطالعہ کرنا، معائنہ کرنا، پڑتال کرنا، کی تحقیقات کرنا، (کسی جگہ) جانا، (فوجی دستوں وغیرہ کا) معائنہ کرنا۔ إفتقد: بمعنی تفقد نیز إفتقد ه/ ه: کو کھو دینا۔ إستفقد ه/ ه: کو نہ پانا، نہ پکڑ سکنا، کو یاد کرنا۔ فقيد: گم شدہ، وفات یافتہ، مرحوم۔ فقيد العلم: جس کی وفات پر اہل علم و سائنس کو افسوس ہو۔ الفقيد الراحل: مرحوم۔ فِقدان و فُقدان: خسارہ، عزیز کی وفات۔ فقدان الصواب: پاگل پن، حماقت۔ فقدان الذاكرة: یادداشت کی خرابی۔ فاقِد الشعور: بے ہوش، غشی میں، حواس باختہ، بے حس۔ فاقِد الضمير: بے باک، بددیانت، بلا جھجک۔ فاقد و التهذيب: غیر تعلیم یافتہ لوگ، بے تہذیب لوگ۔ متفقِّد: کنٹرولر، انسپکٹر۔

فقر: ۱۔ فقر ـفقرًا: کھودنا۔ ـ الشيءَ: کو کاٹنا، پر اثر کرنا۔ ـ عينه: آنکھ پھوڑنا، نکال باہر کرنا (عام زبان میں)۔ فقّر: کھودنا۔ ـ الفسيلة: پودا لگانے کیلئے زمین کھودنا۔ ـ الشيءَ: کو کاٹنا، پر اثر کرنا۔ الفقر جمع أفقُر: چھن، کاٹ۔ الفقر: ترتیب سے بنے ہوئے کنوئیں جو ایک دوسرے تک پہنچتے ہوں اور ان کا آپس میں رابطہ ہو۔ الفقرة جمع فقر و فقرات: گڑھا۔ الفِقرة جمع فِقر: فقر کا اسم نوع۔ ذو الفقار: امام علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی تلوار کا لقب۔ الفقير جمع فقر: گڑھا جس میں کھجور کا پودا لگایا جائے۔ عوام اسے بیش کہتے ہیں، نالی کے منہ سے پانی نکلنے کی جگہ۔ ركيّة فقيرة: کھدا ہوا کنواں۔ المُفقّر من السيوف: وہ تلوار جس کی پشت مشجر ہو۔

۲۔ فقر ـفقرته الداهيةُ: پر بھاری یعنی کمر توڑ مصیبت آ پڑنا۔ ـ الخرزَ: کو موتی پرونے کے لئے بیندھنا۔ فقِر ـفقرًا: ریڑھ کی ہڈی میں بیماری یا اس کی شکستگی کی وجہ سے درد ہونا صفت: فقير و فقِر و مفقور۔ فقرته الداهية: پر بھاری یعنی کمر توڑ مصیبت آ پڑنا۔ ـ الخرزَ: کو موتی پرونے کے لئے بیندھنا۔ أفقر ظهرُ المهر: بچھیرے کا سواری کے قابل ہونا۔ ـ هُ الصيدُ: کو شکار کا اپنی پہلو سے موقع دینا۔ ـ هُ ظهرَ مهرِه: کو سواری کے لئے بچھیرا استعارہ دینا۔ ـ هُ الارضَ: کو زمین کھیتی باڑی کے لئے مستعار دینا۔ الفاقِرة جمع فواقِر: کمر توڑ مصیبت۔ الفقر جمع فُقَر: جانب پہلو۔ الفقرة جمع فُقَر و فُقرات: امر عظیم، قرب۔ کہا جاتا ہے: هو مِنك فُقرةً: یعنی وہ تم سے قریب ہے۔ الفَقرة جمع فَقَر: ریڑھ کی ہڈی (کا جوڑ)۔ الفِقرة ج فِقَر و فِقرات و فِقَرات: ریڑھ کی ہڈی۔ ـ جمع فِقَر: قصیدہ کا عمدہ شعر، کلام یا جملہ کا لطیف نکتہ۔ الفَقارة جمع فَقار: ریڑھ کی ہڈی (کا جوڑ)۔ فَقار الجوزاء: برج جوزاء کے ستارے۔ الفَقاري: فقار ظہر کی طرف منسوب، ریڑھ کی ہڈیوں کا، ریڑھ کی ہڈیوں کے متعلق، ریڑھ کی ہڈیوں سے منسوب۔ الفيقَر: مصیبت۔ المُفقِر: طاقتور مرد، سواری کے قابل بچھیرا۔ المُفقَّر: مضبوط ریڑھ کی ہڈیوں والا۔ رجل مُفقِر: فرمانبردار۔

۳۔ فقُر ـفقارةً: مفلس ہونا۔ أفقرهُ: کو مفلس بنانا۔ تفاقر: اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا، مفلس ہونے کا دعوی کرنا۔ افتقر: مفلس ہونا۔ ـ اليه: کا محتاج ہونا۔ صفت: فَقير جمع فُقَراء م فقيرة جمع فقيرات و فقائر و فُقَراء۔ الفَقر جمع فُقور و مَفاقر: افلاس، غم۔ الفُقر جمع فُقَر: مفلسی۔ الفَقير جمع فقراء م فقيرة ج فقيرات و فقائر و فقراء: محتاج۔ المَفاقر: اسباب افلاس، اس کے لئے کوئی واحد نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ فقر کی جمع ہے، خلاف قیاس جیسے: حُسن کی جمع مَحاسن اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مَفقرة بمعنی فقر کی جمع ہے۔

۴۔ الفقرة جمع فقر و فقرات: گریبان۔ الفِقرة جمع فِقر: پہاڑ وغیرہ کا نشان۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فَقَرَ ـِ فَقْراً ہ: کو چھیدنا، برمانا، میں سوراخ کرنا، کو چھیدنا، کو بیندھنا۔ ـــ فَقُرَ ـُ فَقَارَۃً: مفلس ہونا یا ہو جانا، تنگ دست، حاجتمند یا محتاج ہونا یا ہو جانا۔ فَقَّرَ ہ: کو چھیدنا، میں چھید کرنا، سوراخ کرنا، کو بیدھنا، برمانا۔ اَفْقَرَ ہ/ہ: کو دبلا کرنا، ضعیف کرنا، کو کنگال کر دینا، کو غریب بنانا، مفلس کرنا۔ ـــ ہ الٰی: کو کا محتاج کرنا، ضرورت مند کرنا۔ اِفْتَقَرَ: مفلس ہو جانا۔ ـــ اِلٰی: کی حاجت ہونا، کی ضرورت ہونا، درکار ہونا، کا محتاج ہونا، کا کم یا ناکافی ہونا، میں ناقص ہونا، کو طلب کرنا۔ فَقْر: مفلسی، ضرورت احتیاج، کمی، طلب۔ فِقْرَۃ: سیکشن پیرا، پیراگراف، پیج (passage)، عبارت، عبارت کا کوئی حصہ۔ فِقْرۃ: کسی تحریر کا جز یا حصہ، دفعہ یا شرط (article)، مخصوص حصہ، خاص جملہ، خاص مضمون۔ السِّلْسِلَۃُ الفِقْرِیَّۃُ یا العمود الفِقْرِی: سلسلۃ الظہر (the spinal column)
حیوانات فِقْرِیۃ: ریڑھ کی ہڈی والے جانور vertebrates
فَقَار (اسم جنس واحد فَقَارَۃ): فقرہ، سلسلۃ الظہر۔ السِّلْسِلَۃُ الفَقَارِیۃ: سلسلۃ الظہر۔ فَقِیر جمع فُقَرَاء: بھکاری درویش، صوفی بھکاری، غریب، غریب آدمی۔

فقس: [1] فَقَسَ ـِ فَقْسًا البیضۃَ: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا، پھاڑنا۔ ـــ الطائِرُ بیضتَہُ: پرندہ کا انڈے کو توڑ کر بچہ نکالنا۔ ـ البارودۃَ: بندوق چلانا (عام زبان میں)۔ فَقَسَ السمنَ فَفَقَّسَ: گھی کو آگ پر گرم کر کے جھاگ نکال کر اُسے صاف کرنا (عام زبان میں)۔ تَفَقَّسَ و انْفَقَسَ الشیءُ: الٹ جانا۔ تَفَاقَسَ الولدان: دو لڑکوں کا اپنے اپنے ہاتھ میں انڈہ لینا پھر ایک کا دوسرے کے انڈے کو ضرب لگانا۔ اس طرح ٹوٹنے والے انڈے کو صحیح انڈے والے کا لے لینا۔ اس سے اسم المُفَاقَسَۃ ہے۔ (عام زبان میں)۔ المِفْقَاسُ: جال کی لکڑی جو پرندے پر الٹ جاتی ہے تو پرندے کو پکڑ لیا جاتا ہے۔

[2] فَقَسَ ـِ فَقْسًا الرجُلَ: کو بالوں سے پکڑ کر نیچے کھینچنا۔ ـ الشیءَ: کو چھین لینا۔ ـ ہُ عن الامر: کو سے زبردستی روکنا۔ ـــ فُقُوسًا: کودنا۔ تَفَاقَسَ الرجُلان: ایک دوسرے کے بالوں کو پکڑ کر نیچے کھینچنا۔

[3] فَقَسَ ـِ فَقْسًا الحیوانَ: کو قتل کرنا، مار ڈالنا۔ ـــ فُقُوسًا: اچانک مرجانا۔

[4] فَقَسَ ـِ فَقْسًا ہُ: (کمانی) کو ڈھیلا کرنا، (پھیلی ہوئی چیز) کو کسنا، سمیٹنا، سکیڑنا (عام زبان میں)۔ الفُقَاس (طب): جوڑوں کی بیماری۔

۵- الفَقُّوس (واحد فَقُّوسَۃ) (ن): خربوزہ کی ایک قسم۔

فَقُّوس (فَقُّوص): بڑے کھیرے یا ککڑی کی ایک قسم۔ مِفْقَس جمع مَفَاقِس: بچے نکالنے کا آلہ، انڈے سینے کی مشین، کمزور پیدائش کے بچے پالنے کی مشین (incubator)۔

فقش: فَقَشَ ـِ فَقْشًا البیضۃَ: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔ شَجَرٌ فاقِشٌ: پھل سے خالی درخت (عام زبان میں)۔ فَقْشَۃُ الثوب: کپڑے کے دامن میں شگاف (عام زبان میں)۔

فقص: فَقَصَ ـِ فَقْصًا و فَقْصاً البیضۃَ و نحوھا: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا، پھاڑنا۔ صفت مفعولی: فَقِیصَۃ و مَفْقُوصَۃ۔ تَفَقَّصَ و انْفَقَصَت البیضۃُ عن الفرخ: انڈہ ٹوٹ کر بچے کا نکلنا۔ فَقَّصَ ہ: (انڈے) سینا، (پرندے کا) انڈوں سے بچے نکالنا۔ فَقُّوص بمعنی فَقُّوس۔ تفقیص: انڈے سینا، انڈوں سے بچے نکالنا۔ آلۃ لتفقیص البیض یا آلۃ التفقیص: بچے نکالنے، انڈے سینے کی مشین (incubator)۔

فقط: فَقَّطَ الحسابَ (ت): متعین مقدار کے بعد فقط لکھنا تا کہ کوئی اس میں اضافہ نہ کر سکے۔ فَقَطْ: ف اور قط سے مرکب لفظ جس کے معنی ہیں لاغیر یعنی صرف، بس، آپ کہتے ہیں: رایتُہُ مرۃ فقط: یعنی میں نے اسے صرف ایک دفعہ دیکھا، یہ ظرف ہے اور زمانہ ماضی سے مخصوص ہے۔

فقع: فَقَعَ ـَ فَقْعًا و فُقُوعًا لونُہ: کے رنگ کا صاف اور خالص ہونا یا گہرا زرد ہونا، سخت پیلا ہو جانا۔ فَقِعَ ـَ فَقَعًا: رنگ کا گہرا ہونا، اس کا استعمال اکثر زرد رنگ کے لئے ہوتا ہے، سرخ ہونا (رنگ کا)۔ فَقَّعَ الادیمَ: چمڑے کو سرخ رنگ رنگنا۔ تَفَاقَعَت عیناہُ: کی آنکھوں کا سفید ہونا۔ الفَاقِع (فا): خالص صاف رنگ۔ مشہور یہ ہے کہ یہ صفت کے طور پر زرد رنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ الفَاقِعَۃ جمع فَوَاقِع: الفاقع کا مونث۔ الفَقْع و الفِقْع جمع اَفْقُع و فُقُوع و فِقَعَۃ: سانپ کی چھتری جو نرم اور سفید ہوتی ہے۔ کھمبی۔ الفَقَع: سخت سپیدی۔ لَونٌ فُقَاعِیّ: تیز یا گہرا رنگ۔ کہا جاتا ہے: اَبیضُ فُقَاعِیّ: بہت سفید۔ الأَفْقَع م فَقْعاء جمع فُقْع: بہت سفید۔ الفَقِیع (واحد فَقِیعَۃ) (ح): کبوتر کی ایک قسم جو سفید رنگ ہوتی ہے، سرخ فام مرد۔

[2] فَقَعَ ـَ فَقْعًا و فُقُوعًا الرجُلُ: گرمی کی ... مرجانا، اسی سے عام لوگوں کا کہنا ہے: فَقَعَ فلانٌ: وہ غم سے حقیقت میں یا مجازاً مر گیا۔ فَقَعَتْہُ فَقْعًا الفواقعُ: مصائب نے اس کو ہلاک کر دیا۔ فَقَّعَ ہُ فمات فَقْعًا (فی اصطلاح العامۃ): اس نے اسے مار ڈالا، حقیقت میں یا مجازاً غم یا حسرت سے مر گیا۔ الفاقِعَۃ جمع فَوَاقِع: مصیبت۔

[3] فَقَعَ ـَ فَقْعًا و فُقُوعًا الغلامُ: لڑکے کا بڑھنا۔

[4] فَقَعَ ـَ فَقْعًا الشیءَ: کو چرانا۔

[5] فَقَعَ ـَ فَقْعًا الشیءُ: پھٹنا اور پھٹنے سے آواز نکلنا (سریانی عام زبان میں)۔ فَقَّعَ: بے معنی گفتگو کرنا۔ ـــ اصابعَہُ: انگلیاں چٹخانا۔ ـــ الوردۃَ: گلاب کی پتی کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے مار کر پھاڑنا اور آواز نکالنا۔ اِنْفَقَعَ: پھٹنا۔ فُقْعُ الذئب (ن): ایک قسم کی بڑی کھمبی جو سفید اور گیند کی شکل کی ہوتی ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ الفُقَّاع: جو یا پھلوں کی شراب۔ الفُقَّاعِی: جو یا پھلوں کی شراب بیچنے والا۔ الفَقَاقِیع واحد فُقَّاعۃ: بلبلے۔

[6] اَفْقَعَ: محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا، کا برا حال ہونا۔ الفَقْع: مفلسی۔

[7] الفَقَّاع: بڑا سخت خبیث۔ الفِقِّیع (واحد فِقِّیعَۃ) (ز): کچی انجیر (عام زبان میں)۔

فَقَعَ ـَ فَقْعًا: پھٹنا، بھک کرنا، دھماکے سے پھٹنا۔ فَقَّعَ: بھک کرنا، ٹوٹ جانا، تڑاتے سے کھلنا، انگلیاں چٹخانا، درز پڑنا، بال آنا۔ اِنْفَقَعَ بمعنی فَقَّعَ۔ فاقِع: چمکدار زرد، چمکدار گہرا، چمکیلا، شوخ، تیز (رنگ)۔ فاقِعَۃ جمع فَوَاقِع: چھالا، آبلہ، پھپھولا، پھنسی، گومڑا، مسا، دنبل۔

فقل: فَقَلَ ـُ فَقْلاً البیدرَ: کھلیان میں غلہ بکھیرنا۔ اَفْقَلَ المکانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔ الفَقْل (مص): سرسبزی۔ المَفْقَلَۃ جمع مَفَاقِل: غلہ بکھیرنے کا آلہ۔

فقم: [1] فَقَمَ ـُ فَقْمًا و تَفَقَّمَ الرجُلَ او الکلبَ: کی ناک پکڑنا۔ فَقِمَ ـَ فَقَمًا و فُقُمًا الرجُلُ: کے سامنے کے دانتوں کا باہر کو نکلے ہوئے ہونا اور یوں نیچے کے دانتوں پر نہ پڑنا۔ صفت: اَفْقَم م فَقْماء جمع فُقْم۔ الفَقْم و الفُقْم: کتے کی تھوتھنی کا کنارہ، ایک جبڑا یا دونوں جبڑے۔ الفُقْم: منہ۔ الفُقْمَۃ جمع فُقُمَات و فُقَم و الفُقَّمَۃ جمع فُقَّمَات و فُقَم (ح): ایک قسم کی مچھلی جو شمالی سمندروں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ اور دودھ دینے والے جانوروں میں شمار ہوتی ہے۔ تھوتھنی مخروطی شکل والی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہے۔دانت نہیں ہوتے۔

۲۔فَقِمَ ـفَقَمًا و فَقْمًا و فُقُومًا الامرُ: معاملہ کا سنگین اور خطرناک ہونا یا ہوجانا۔صفت: اَفْقَم ۔ فَقمًا و فَقْمًا الرجُلُ: حیران ہونا، الجھن میں پڑ جانا۔ فَقُمَ ـفَقَامَةً الامرُ: معاملہ کا سنگین اور خطرناک ہونا یا ہوجانا۔صفت: اَفْقَم ۔ــــ الشيءُ: وسیع ہونا، کشادہ ہونا۔ تَفَاقَمَ الامرُ: معاملہ کا سنگین اور خطرناک ہونا یا ہوجانا۔

۳۔فَقِمَ ـفَقْمًا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔کہا جاتا ہے: اکل الرجُلُ حتی فَقِمَ: مرد نے کھایا یہاں تک کہ بدہضمی ہوگئی۔ الفَقِم: سمجھدار جو مخالفوں پر غالب آجائے۔

○ فَقِمَ ـفَقَمًا و فَقْمًا و فُقُومًا و فَقُمَ ـفَقَامَةً و تَفَاقَم: سنگین، تشویشناک، اہم، قابل توجہ یا خطرناک ہونا یا ہو جانا، خطرناک طور پر بڑھ جانا، بگڑ جانا، ہولناک ہوجانا، نازک صورت اختیار کر لینا، فیصلہ کن مرحلہ پر پہنچ جانا۔ فُقَّم و فُقْم (اسم جنس واحد فُقَّمَة و فُقْمَة): سِیل (ایک دریائی مچھلی) (seal)۔ فُقْنُس: سیمُرغ (phoenix)۔

فقه: فَقَهَ ـفَقْهًا الرجُلَ: پر علم میں غالب ہونا۔فَقِهَ ـ فَقَهًا: جاننا، فقیہ ہونا ۔ فِقْهًا الشيءَ او الكلامَ: کو سمجھنا۔کہا جاتا ہے: فَقِهَ عنه الكلامَ: اس نے اس کی گفتگو کو سمجھ لیا۔فَقُهَ ـفَقَاهَةً: جاننا، فقیہ ہونا۔ فَقَّهَ و اَفْقَهَ فُلانًا: کو سکھلانا، سمجھانا۔ فَاقَهَ فلانًا: سے فقہ میں غالب ہونا۔ تَفَقَّهَ الرجُلُ: علم فقہ سیکھنا اور حاصل کرنا۔ ــ الشيءَ: کو سمجھ لینا۔ الفِقْه: کسی شے کا جاننا اور سمجھنا، احکام شرعیہ کا علم (ان کے تفصیلی دلائل سے)، مہارت، خذاقت، زیرکی۔ الفَقِه و الفَقَهُ و الفَقِيه م فَقِهَة و فَقِيهة جمع فُقَهَاء و فَقَائِه: بہت سمجھدار، عالم، ذکی، علم فقہ جاننے والا۔ المُسْتَفْقِهَة: نوحہ کرنے والی کا ساتھ دینے والی عورت

○ فَقِهَ ـفِقهًا ه: کو سمجھنا، کو پوری طرح سمجھنا، کا ادراک کرنا۔فَقِهَ ـفِقهًا و فَقُهَ ـفَقَاهَةً: علم رکھنا، خصوصاً قانونی، شرعی علم رکھنا۔ فَقَّهَ ه: کو سکھانا، پڑھانا۔ ــ ه في: کو کی تعلیم دینا۔ اَفْقَهَ ه: کو کچھ سکھانا، کو کی تعلیم دینا۔ تَفَقَّهَ ه: کو سمجھنا، کا ادراک کرنا، کو پوری طرح سمجھنا، فقہ پڑھنا۔ ــــ في: کے علم کے حصول میں کاوش کرنا، کا علم تن دہی سے حاصل کرنا، کے لئے اپنا مطالعہ وقف کرنا، پر کام کرنا، معلومات حاصل کرنا، صحیح تصویر حاصل کرنا، واضح خیال حاصل کرنا۔ فِقهُ اللُغَة: (دیکی عربی) لسانیات (philogy)۔ فِقه: سمجھ، ادراک، علم۔ الفِقْه: فقہ (اسلام میں)، اصول قانون، اصول فقہ، قانون دانی، قانونی مہارت، تفقہ۔ فِقْهِي: فقہ کے متعلق۔ فَقِيه جمع فُقَهاء: ماہر قانون۔ قانون دان (اور ماہر دینیات) فقہ کا ماہر، (عوامی استعمال) قرآن کا قاری، ابتدائی مدرسہ کا ٹیچر۔

فقو: فَقَا ـفَقْوًا اثرَهُ: کے پیچھے جانا، کا پیچھا کرنا، کے نقش قدم پر جانا۔ فُقْوَةُ السهم جمع فُقًى: سوفار تیر

فكّ: فَكَّ ـفَكًّا الشيءَ: کے ایک حصہ کو دوسرے سے جدا کرنا ــ العقدةَ: گرہ کھولنا ــ العظمَ: ہڈی کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ــ الختمَ: مہر کو توڑ دینا ــ اللغزَ: اصل بات جان لینا، معمہ حل کرنا (عام زبان میں) ــــ عددًا او عبارةً جبريّةً (ع ح): کے اجزائے ضربی بنانا جیسے ۳۰ کے ۲×۳×۵ ــ المعادلةَ: تناسب کی جذور دریافت کرنا ــــ فكًّا و فِكَاكًا و فَكَاكًا الاسيرَ: قیدی کو آزاد کرنا ــــ يدهَ: ہاتھ کھولنا ــــ ادغامَ الحرف: ادغام کو اٹھا دینا جیسے: لاتَمُدّ میں لاتَمْدُدْ ــ فكًّا و فُكُوكًا الرهنَ: رہن چھڑانا ــ الرجُلُ: بہت بوڑھا ہونا ــ ـفكًّا و فَكَكًا العَظْمُ: ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا ــ ـفكًّا و فكّةً: سست اور بے وقوف ہونا۔ فكّكَ هُ: کو علیحدہ کرنا، چھڑانا ــ بمعنی حلّلَ: یعنی اجزا بنانا (دیکھو فكَّ عددا و عبارة جبرية و ـ المعادلة)۔ اَفَكَّ الظبيُ من الحبالة: ہرن کا جال میں سے نکل جانا۔ تفكّكَ: الگ الگ ہونا ــــ المُخنثُ: مخنث کا ضبط نفس سے عاری ہونا، شہوت انگیز چال چلنا۔ما اِفْتَكَّ الرهنَ: رہن چھڑانا۔اِنفكَّ: جدا جدا ہونا، کھل جانا ــــ العَظمُ: ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا ــــ العبدُ: غلام کا آزاد ہونا۔کہا جاتا ہے: اِنْفَكَّ يفعل كذا: وہ ایسا کرتا رہا۔اِستَفَكَّ ه: کی رہائی طلب کرنا۔ الفَاكّ (فا) جمع فِكَكَة و فِكَاك: بہت بوڑھا، بہت بے وقوف۔ الفَكّ (مص) جمع فُكُوك: جبڑا (اوپر اور نیچے کا)۔ الفكّة: اسم مرة۔کہا جاتا ہے: في فلانٍ فكّةٌ: اس میں نادانی ہے۔ الفِكَاك و الفكَاك: جس سے رہن وغیرہ چھڑایا جائے۔: الفكّاك صیغۂ مبالغہ۔ الاَفَكّ م فكّاء جمع فُكّ: وہ جس کی ہڈی جوڑ سے ہٹ گئی ہو یا اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو۔

○ فَكَّ الحجزَ عن: کی قرقی یا ضبطی اٹھا دینا یعنی ختم کر دینا۔ لم ينفك: کرتے رہنا۔ اِفْتَكَ ه من: کو سے چھین لینا۔ فَكّ جمع فُكُوك: جبڑے کی ہڈی، جبڑا۔ الفك الاسفل: نچلا جبڑا۔ الفك الاعلى: اوپر کا جبڑا۔ فكّة: چھوٹی ریزگاری، سکے۔ فِكَاك: علیحدگی، رہائی، خلاصی، چھٹکارا، کفارہ، ادائیگی، زرنقد، روپیہ، جو رہائی کے لئے دیا جائے، ڈنڈ، دیت۔ تفكيكُ الذرّة: جوہری انشقاق (atomic/ nuclear / fission)۔ مَفكوك: ڈھیلا۔ مُفكَّك: جدا کیا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، بے ربط، بے جوڑ (الفاظ، جملے)۔

فكت: فِكْتُورِيا مَلَكِيَّة (ن): ایک پودا۔

فكر: ۱ـفَكَرَ ـفِكْرًا و فَكْرًا و فكّرَ و اَفْكَرَ و تَفَكَّرَ في الامر: کو سوچنا، پر غور کرنا، تامل کرنا۔ اِفْتَكَرَ في الامر: پر غور کرنا (عام زبان میں)۔ الفِكر جمع اَفكار: غور و فکر، خیال۔کہا جاتا ہے: لِي في الامر فِكرٌ: اور میرے لئے اس معاملہ میں غور و فکر کی بات ہے۔ مَالِي في الامر فكْرٌ او فِكر: مجھے اس معاملہ میں کوئی حاجت نہیں۔ الفِكْرَة و الفِكْرَى جمع فِكَر: سوچ بچار، غور و فکر۔ الفِكّير و الفَيْكَر: بہت سوچ بچار کرنے والا۔

۲۔ الفَاكُورَة جمع فَوَاكِير: دروازہ اور کھڑکی کو اپنے آپ کھلنے سے روکنے والی کوئی چیز۔

○ فَكَرَ ـفَكْرًا في: پر غور و فکر کرنا، کا پکا ارادہ کرنا، پر نظر ثانی کرنا، پر پھر سے غور کرنا، کا ارادہ کرنا، کا خیال کرنا ــ في/ب: کے متعلق رائے رکھنا۔ فكّرَ في بمعنی فَكَرَ في نیز فكّرَه ه/في: کو کچھ یاد دلانا۔ أفكر بمعنی فكَرَ في۔ تَفكّرَ في: پر غور و فکر کرنا، کا پکا ارادہ کرنا، کا خیال کرنا، کے متعلق رائے رکھنا۔ اِفْتَكَرَ بمعنی تَفكّر نیز اِفتكَرَه ه/ه: کی یاد آنا، کو یاد رکھنا، کو یاد آنا، کو یاد پڑنا، کو ذہن میں لانا۔ فِكر جمع افكار: سوچ بچار، غور فکر، خیال، وہم، گمان، فکر، رائے، نظریہ، تصور۔ شَارِدُ الفِكر: (خیالات میں) کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، پراگندہ دماغ، منہمک، (خیال یا خیالوں میں) ڈوبا ہوا۔ مُشَوَّشُ الفكر: پریشان، گھبرایا ہوا، حیران، الجھاؤ میں ڈالا ہوا، دہشت زدہ۔ فِكْرَة: خیال و وہم گمان، رائے، تصور، ضمیر کی خلش، ضمیر کی خلش کے باعث تذبذب، پس و پیش، تامل، ہچکچاہٹ۔ صاحبُ الفِكْرَة: (کا) خالق، موجد، مخترع، مصنف۔ على فِكرة: ضمناً، برسبیل، تذکرہ، کے بارے میں، کے متعلق۔ فِكْرِي: فرضی، خیالی، قیاسی، ذہنی، دماغی، شعوری، عقلی۔ فِكِّير: فکرمند، متفکر، دل گیر، مستغرق، (کے) دھیان میں محو، گیانی، سوچ بچار کرنے والا، فکر کرنے والا، تفکر پسند،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پُر، خیالات میں ڈوبا ہوا، غور و فکر کا عادی۔ مُـفَـکِّرَۃ: نوٹ بک۔ مُـفَـکِّـرَۃ یَـوْمِیَّۃ: ڈائری (diary)، روز نامہ، روز نامچہ، روزانہ واقعات کا رجسٹر۔ مُفَکِّرات: خیالات، سوچیں، تاملات۔

○ فَکَشَ ۔فَکْشًا: (کے جوڑ میں) موچ آنا۔ اِنْفَکَشَ: موچ آجانا۔

فکع: فَکَعَ ۔فَکْعًا و فُکُوعًا: جانا۔ کہا جاتا ہے: ذهب فما یُدری این فکع: وہ گیا لیکن نہ معلوم کہاں گیا۔ فَکِعَ ۔فَکْعًا و فُکُوعًا الرجُلُ: غم یا غصہ سے سر جھکانا۔ الفَکَع: کھانسی۔

فکل: اِفْتَکَلَ فی فعلہ: کام کو اچھی طرح انجام دینا۔ الأَفْکَل: لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے: جاءَ القومُ بأفکلهم و بأفاکِلِهم: تمام قوم آئی) کپکپی۔ کہا جاتا ہے: أَخَذَہُ أَفْکَلٌ: (خوف یا سردی سے) کانپنے لگنا۔ المَفْکُولُ: جس پر کپکپی طاری ہو۔

فکن: فَکَنَ ۔فَکْنًا فی الکذب: جھوٹ پر ڈٹا رہنا۔ تَـفَـکَّـنَ: تعجب کرنا، فکر کرنا، افسوس کرنا، نادم ہونا، پشیمان ہونا۔

فکہ: افَکِہَ ۔فَکَہًا و فَکاهَۃً: خوش طبع ہونا، ہنسنے ہنسانے والا ہونا۔ صفت: فَاکِہٌ و فَکِہٌ و فَیْکَہان۔ ۔۔ منہُ: پر تعجب کرنا ۔۔ للشیء: سے متعجب ہونا۔ کہا جاتا ہے: لو سمعتَ حدیث فلان لما فکِهْتَ لہ: اگر تم فلاں شخص کی بات سنو تو متعجب نہیں ہو گے۔ فَکَّہَ الرجُلَ: کو کلام شیریں سے خوش کرنا، کو میوہ کھلانا۔ فَاکَہَ مُفاکَهَۃً الرجُلَ: سے مزاح کرنا۔ تَـفَکَّہَ: میوہ کھانا ۔۔ بالشیء: سے لذت حاصل کرنا ۔۔ بہ: سے فائدہ اٹھانا ۔۔ منہُ: پر تعجب کرنا ۔۔ بفلان: کی غیبت کرنا، سے دل لگی کرنا، کچھ لینا۔ کہا جاتا ہے: ترکتُ القوم یتفکهون بعرض فلان: میں نے لوگوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ فلاں کی غیبت سے لذت حاصل کر رہے تھے۔ تَفاکَہَ القومُ: آپس میں خوش طبعی کرنا، ہنسی مذاق کرنا۔ الـفـاکِـہ (فا): خوش طبع، میوے والا۔ الـفـاکـهَۃ جمع فَوَاکِہ: الفاکہ کا مونث۔ ہر قسم کا پھل، جس کو کھا کر لذت حاصل کی جائے۔ فاکِهَۃُ الشتاء: آگ۔ الفَکِہ م فَکِهَۃ جمع فَکِهات: خوش طبع، اکثر ہنسنے والا، ہمیشہ ہنستے رہنے والا، خود پسند، اکڑ باز، میوہ خور۔ الفاکِهانی: میوہ فروش۔ الفُکَاهَۃ و الفَکِیْهَۃ: خوش طبعی۔ الأَفْکَہ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ من افکہ الناس: فلاں شخص بہت مزاح کرنے والا ہے۔ الأُفْکُوهَۃ جمع أَفَاکِیہ: مزاح، ہنسی، مذاق۔ الفاکیہ: مذاق، شوخیاں، مضحکہ خیز حرکات، لطیفے۔

۲۔ تَفَکُّہ: ندامت، پشیمانی۔

○ فَکِہَ ۔فَکَہًا و فَکاهَۃً: خوش ہونا یا ہو جانا، خوش باش ہونا، خوش طبع ہونا، چہل باز ہونا، ہنسوڑ ہونا، دل لگی باز ہونا، ہنسانے والا ہونا۔ فَـکَّـہَ ہ: کا ہنسی مذاق سے دل خوش کرنا یا جی بہلانا۔ فَـاکَـہَ ہ: سے ہنسی مذاق کرنا، سے دل لگی کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا۔ تَـفَـکَّـہَ ب: سے اپنا دل خوش کرنا، جی بہلانا، سے ہنسی مذاق کرنا، سے خوش ہونا۔ تَـفَـاکَـہَ: مذاق کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا۔ فَـکِـہ: خوش، شاداں، فرحاں، خوش طبع، چہل باز، مذاق پسند، ہنسوڑ، دل لگی باز، ہنسانے والا، دلچسپ، دل بہلانے کی چیز۔ فُکَاهَۃ: ہنسی مذاق، مزاح، دل لگی۔ فُکَاهی دلچسپ، ہنسانے والا، خوش طبع، پُر مذاق شخص، مزاح نگارانہ، مزاح نگار، مزاحیہ نگار۔ تَـفَـکِّـهَۃ: تفریح، کھیل، شگفتگی، حظ، لطف، مزا۔ مُـفَـاکَـهَۃ: دل لگی اور چھیڑ چھاڑ والی گفتگو، ہنسی ہنسی میں دھوکا دینا۔ فَـاکِـہ: خوش، مسرت افزا، زندہ دل، خوش باش، مضحکہ خیز، خوش طبع، ہنسانے والا، دلچسپ۔

فلّ: افَلَّ ۔فَلًّا و فَلَّلَ السیفَ: تلوار کو دندانے دار کرنا ۔۔ القومَ: قوم کو شکست دینا۔ تَفَلَّلَ و انفَلَّ السیفُ: تلوار کا دندانے دار ہونا ۔۔ القومُ: قوم کا شکست کھانا۔ اِفْتَلَّ السیفُ: تلوار کا دندانے دار ہونا۔ اِسْتَفَلَّ السیفَ: تلوار کو دندانے دار کرنا ۔۔ الشیءَ: کسی چیز کا ادنی حصہ لینا۔ الفَلّ (مص) جمع فُلُول: تلوار کی دھار میں ٹوٹ پھوٹ یا دندانہ ۔۔۔ جمع فُلُول و فِلال: وہ شے جو کسی چیز سے گرے جیسے لوہے کا برادہ، آگ کی چنگاری، جماعت۔ رجُـلٌ فَلٌّ و قـومٌ فَـلٌّ: شکست خوردہ مرد یا قوم (واحد جمع برابر ہیں) بھی افلال و فُلول جمع لاتے ہیں۔ الفَلَل: تلوار کی دھار کا کند ہونا۔ الفَلَّۃ: تلوار کی دھار کا دندانہ۔ کتیبۃٌ فُلّی: شکست خوردہ فوج کا دستہ۔ الفَلِیل: جماعت۔ سیفٌ فَلِیلٌ و افَلّ و مَفْلُول و مُنْفَلّ: دندانے دار یا کند تلوار۔

۲۔ فَلَّ ۔فَلًّا عن فلان عقلُہُ: (کی) عقل زائل ہونے کے بعد لوٹ آنا ۔۔ الرجُلُ: چلا جانا (عام زبان میں)۔ فَلَّلَ ہُ: کو بھیجنا (عام زبان میں)۔ الفَلَّۃ: جانا (عام زبان میں)۔

۳۔ اَفَلَّ القومُ: قوم کا بنجر زمین پر پہنچنا ۔۔ الرجُلُ: (کا) مال جاتا رہنا۔ الفَلّ جمع فِلّ: واحد کی طرح و افلال۔ الفِلُّ و الفِلِّیَّۃ جمع افلالیٰ: خشک زمین جس میں کچھ نہ اُگے۔ کہا جاتا ہے: هو فَلٌّ من الخیر: وہ خیر سے خالی ہے۔

۴۔ الـفُلّ: واحد فُلَّۃ (ن): چنبیلی کے مانند پھول والا پودا جس کی خوشبو تیز ہوتی ہے۔ الـفلیل و الفَلِیلۃ: مجتمع بال۔

۵۔ فَـلْفَلَ الطعامَ: کھانے میں مرچ ڈالنا۔ تَـفَلْفَلَت حلماتُ الضرعِ: پستان کے بالائی حصہ کا سیاہ ہونا۔ ۔ شعرُ الأسوَد: بالوں کا سخت گھنگریالا ہونا۔ الفِلْفِل و الفُلْفُل واحد فلفلۃ (ن): مرچ (کا پودا)۔ الفِلفِل الکاذب (ن): ایک درخت جس کا پھل مرچ جیسا ہوتا ہے، آرائش کے کام میں لایا جاتا ہے۔ الـفُلَـیْـفِـلَۃ: فلفلۃ کی تصغیر۔ (ن): ایک قسم کی سبزی، سبز بھی کھائی جاتی اور بھر کر پکائی بھی جاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک مرچ کی طرح تیز دوسری میں تیزی نہیں ہوتی۔ الـمُـفَلْفَل: شرابٌ مُفَلْفَل: تیز شراب جو مرچ کی طرح منہ کو جلا دیتی ہے۔ شَـعَـرٌ مُـفَـلْفَلٌ: بہت گھنگریالے بال۔ الرز المُفلفَل (ط): چاول جن کو مصالحے ڈال کر پکایا جاتا ہے۔

۶۔ فَـلْـفَـلَ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، ناز اور تکبر سے چلنا ۔۔ القومُ: ایک ایک کر کے نکل جانا (عام زبان میں)۔ تَـفَـلْفَلَ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، ناز اور تکبر سے چلنا۔

○ فَـلَّ ۔فَلًّا ہ: کسی چیز جیسے تلوار کو دندانے دار کرنا، کند کرنا، کو توڑنا۔ فَـلَّ: بھاگ جانا، فرار ہو جانا۔ فَـلَّ غربَۃ: فلّ من حِدّتِہ او فلّ حدیدہ: کو کمزور کرنا، کو افسردہ کر دینا، کا دل بجھانا، کی ہمت شکنی کرنا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، کو قابو میں کرنا۔ فلّ من شباہ: کو کمزور کرنا۔ فَلَّلَ ہ: (کسی چیز مثلاً تلوار) کو دندانے دار کرنا، کند کرنا۔ فَـلّ جمع فُلُول: سطحی نشان، فلّ جمع فُلُول و أفلال و فُلال: فوج کے بکھرے ہوئے بچے کھچے سپاہی۔ مَـفْـلُول: دندانہ دار، کند۔ فِلّ و فُلّ: عربی چنبیلی، یاسمین۔ فَلّ و فِلّ: کاگ، ڈاٹ، کارک (cork)۔ فِلّۃ جمع فِلات: کوٹھی، دیہاتی گھر (villa)۔

فلت: افَلَتَ ۔فَلْتًا: چھوٹنا ۔۔ ہ: کو چھٹکارا دینا، رہا کرنا، آزاد کرنا۔ أَفْلَتَ: چھوٹنا ۔۔ ہ: کو چھٹکارا دینا ۔۔ إلی الشیء: کا مشتاق ہونا۔ تَفَلَّتَ: چھوٹنا ۔۔ إلی الشيء: کا مشتاق ہونا۔ اِنْفَلَتَ: چھوٹنا۔ تِبْغٌ فَلْتٌ: کھلا تمباکو۔ الـفَلَت: چھٹکارا، چھوٹنا، رہائی۔ کہا جاتا ہے: مالکَ منہ فلتٌ: تیرے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لئے اس سے چھٹکارا نہیں۔ الفَلْتَة جمع فَلَتَات: فلت کا اسم مرۃ۔ بمعنی ایک مرتبہ چھوٹنا؛ مہینہ کی آخری رات یا ماہِ حرام کے پہلے مہینہ کا آخری دن۔ کہا جاتا ہے: هو فی بُردةٍ له فَلْتةٍ: وہ ایسی چھوٹی اور تنگ چادر میں ہے جس کے دونوں پلڑے نہیں مل سکتے۔ الفَلْتِیّ: وہ شخص جو گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے (عام زبان میں)۔ کساءٌ فَلُوت: چھوٹی اور تنگ چادر جس کے دونوں کنارے اوڑھنے والے کے جسم پر نہ مل سکیں۔ الفَالِت (فا): نہ بندھا ہوا مویشی؛ اپنی خواہشات پر چلنے والا جوان شخص (عام زبان میں)۔ الفالِتَة: فالت کا مونث: آوارہ عورت۔ النغمةُ الفالِتة (عام زبان میں): ایسا سُر جو موسیقی کی تان پر جاری نہ ہو (عام زبان میں)۔ الإنْفِلات: جسے الانبساط بھی کہا جاتا ہے۔ (ف): گیس کے دباؤ میں بہت تھوڑی مدت کی کمی، جیسے کار کے وغیرہ سلنڈر میں پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ فَالَتَ فِلاتًا و مُفَالَتَةً: کو اچانک آلینا، پانا۔ تَفَلَّتَ علیه: پر جھپٹا مارنا۔ إفْتَلَتَ الکلامَ: فی البدیہہ کہنا۔ — الشیءَ: کو جلدی سے لینا، پکڑنا — الامرَ: کو بلا توقف کرنا — علیه: بغیر دوسرے کے کام پورا کر دینا۔ أُفْتُلِتَ: اچانک مرجانا — بامرِ کذا: کیلئے تیار ہونے سے پہلے ہی بھونچکارہ جانا — الشیءَ: کسی چیز کا اس سے اچانک لیا جانا۔ إسْتَفْلَتَ الشیءَ من یده: کو سے چھین لینا۔ الفَلْتَة جمع فَلَتَات تغافل میں کیا جانے والا کام۔ کہا جاتا ہے: خَرَجَ الرجُلُ فَلْتَةً: وہ اچانک نکل آیا۔ حَدَثَ الامرُ فَلْتةً: کام بغیر سوچے سمجھے اچانک ہوگیا۔ فَلَتَات الکلام: کلام کی لغزشیں، لایعنی باتیں۔ فرسٌ فَلَتَان جمع فِلْتَان: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ رجُل فَلَتَان: چست، دلیر، تیز طبیعت، برائی کی طرف دوڑنے والا شخص۔ فرسٌ فُلَتٌ و فُلُتٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

○ فَلَتَ من: سے بچ نکلنا، سے کھسک جانا، سے چنگے سے نکل جانا۔ فَلَتَ: آزاد ہونا، رہا ہونا — ہ / ہ: کو بچ نکلنے دینا، کھسکنے دینا، چنگے سے نکل جانے دینا، کو آزاد کرنا، رہا کرنا۔ أفْلَتَ بمعنی فلت۔ تَفَلَّتَ من: سے بچ نکلنا، کھسک جانا، سے چنگے سے نکل جانا، سے رہائی حاصل کرنا؛ تَفَلُّت: چھٹکارا حاصل کرنا، رہا ہونا، آزاد ہونا۔ إنْفَلَتَ من: سے بچ نکلنا، سے کھسک جانا، سے چنگے سے نکل جانا، آزاد ہونا، سے نکلنا، چھٹکارا پانا — آزاد ہونا، رہا ہونا۔ فَلْت: نجات، چھٹکارا۔ فَلْتَة جمع فَلَتَات: غیر متوقع واقعہ یا حادثہ، غیر متوقع موڑ، نامعقول بیان یا عمل، لغزش، سہو، بھول چوک، نظر کی غلطی۔ فَلْتَةً: اچانک، غیر متوقع طور پر۔ فَلاَتِی جمع فَلاَتِیَة: آوارہ، بدکار، عیاش، زانی، ناکارہ۔ إفلات: نجات، چھٹکارا۔ إنْفِلات: نجات، چھٹکارا۔ فَالِت: بچ کر نکل جانے والا آزاد، فرار ہونے والا، مفرور جمع فَلْتَاء: آوارہ، بدکار، عیاش، زانی، ناکارہ۔

فلج: الفَلْجَ ۔ فَلْجًا و فُلُوجًا الشیءَ: کو پھاڑنا، دو ٹکڑے کرنا — الحَرَّاثُ الارضَ: کاشتکار کا زمین کو جوتنا — الوالی الجزیةَ بین القومِ و علیهم: والی کا جزیہ قوم پر تقسیم کرنا، مقرر کرنا، ان پر جزیہ مقرر کرنا۔ فَلِجَ ۔ فَلْجًا و فَلَجَةً: فالج زدہ ہونا، قدموں، ہاتھوں یا دانتوں میں فاصلہ ہونا، صفت: أفْلَج مؤ فَلْجَاء جمع فُلْج۔ فُلِجَ: فالج میں مبتلا ہونا۔ فَلَّجَ الشیءَ: کو تقسیم کرنا — الامرَ: میں نظرو فکر اور تدبر کرنا۔ تَفَلَّجَ: پھٹنا۔ إنْفَلَجَ الصبحُ: صبح کا روشن ہونا۔ الفَلْج (مص) جمع فُلُوج: آدھا۔ الفِلْج: آدھا — و الفالَج جمع فَوَالِج: پیمانہ۔ الفَلَج (مص): صبح، وحشی کے قدم پھٹنا اور ٹخنے کا ہٹ جانا۔ الفَالِج (طب): فالج (ایک بیماری جو جسم کے ایک طرف کو بے حس و حرکت کر دیتی ہے)۔ (ح): دو کوہانوں والا اونٹ۔ الفَلُوجَة جمع فَلاَلِیج: جوتی ہوئی زمین۔ الفَلِیجَة: خیمہ کا ایک حصہ۔ المُفَلَّجَة من الانسان: کشادہ دانت۔ المَفْلُوج جمع مَفَالِیج: فالج زدہ۔

۲۔ فَلَجَ ۔ فَلْجًا و فُلُوجًا القومَ و علی القومِ: پر کامیاب ہونا — سهمُهُ: تیر کا جیتنا — الرجُلُ: مقصد میں کامیاب ہونا — علی خصمه: مقابل پر غالب آنا — له: مقابل کے برخلاف اس کے حق میں فیصلہ کرنا — بحاجته: کو ثابت کرنا۔ فَالَجَهُ فَفَلَجَهُ: کامیابی میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کر کے غالب آجانا۔ أفْلَجَ: مقصد میں کامیاب ہونا — علی خصمه: مقابل پر غالب آنا اور کامیاب ہونا — اللهُ فلانًا علی فلان: اللہ تعالیٰ کا فلاں کو فلاں پر غالب کرنا — برهانَهُ: دلیل ظاہر کرنا، دلیل پیش کرنا — لی: کسی کا مقابل کے خلاف میرے حق میں فیصلہ کرنا۔ الفَلْج (مص): کامیابی، فتحمندی — جمع فُلُوج: چاند۔ الفُلْج و الفُلْجَة: کامیابی، فتح مندی۔ الفَالِج من السهام: جیتنے والا تیر۔

○ فَلَحَ ۔ فَلْحًا ہ: کو لمبائی کے رخ پھاڑنا، کو ٹکڑیوں میں باٹنا، کو دو ٹکڑے کر دینا۔ فُلِحَ: کے نصف حصے کا فالج ہونا۔ إنْفَلَحَ: نصف حصہ کا مفلوج ہو جانا۔ فَلْح جمع فُلُوح: شگاف، رخنہ، درز، دراڑ۔

فلح: الفَلَحَ ۔ فَلْحًا الارضَ: زمین جوتنا۔ فَلِحَ ۔ فَلَحًا: نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا ہونا۔ أفْلَح جمع فُلْح: جس کا نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو، صفت: أفْلَح۔ فَلْحاء جمع فُلْح: نیچے کا پھٹا ہوا ہونٹ۔ الفَلْح (مص) جمع فُلُوح: پھٹن۔ الفَلَح و الفَلَحة: نیچے کے ہونٹ کی پھٹن۔ الفِلاحَة و الفَلاحَة: کھیتی باڑی۔ الفَلاَّح جمع فَلاَّحَة و فَلاَّحُون: کاشتکار، جانور کرایہ پر دینے والا، ملاح۔ مُتَفَلِّحُ الشفة او الیدین او القدمین: سردی کی وجہ سے جس کے ہونٹ، ہاتھ یا پیر پھٹ گئے ہوں۔

۲۔ فَلَحَ ۔ فَلْحًا فُلانًا: کے ساتھ دھوکا کرنا — فَلاحَةً للقوم و بالقوم: لوگوں میں سے بیچنے اور خریدنے والے کو دھوکا دینا۔ فَلَّحَ به: سے ٹھٹھا کرنا، کو دھوکا دینا۔

۳۔ أفْلَحَ الرجُلُ: مطلوب میں کامیاب ہونا؛ کوشش میں کامیاب ہونا، کام میں درست ہونا — بالشیء: کے ساتھ زندگی گزارنا۔ إسْتَفْلَحَ به: میں کامیاب و فتحمند ہونا۔ إسْتَفْلِحِی بِأمرِكِ: اپنا بندوبست کرلے زمانہ جاہلیت میں طلاق پر بولا جاتا تھا کہ شوہر نے تجھے چھوڑ دیا اب اپنا انتظام کرلے۔ الفَلَح و الفَلاح: کامیابی، خوشحالی، بقا، نجات، اذان میں کہا جاتا ہے: حَیَّ علی الفلاح: یعنی کامیابی اور نجات کے راستہ پر آؤ۔ المَفْلَحَة: باعث کامیابی۔

○ إنَّ الحدیدَ بالحدیدِ یُفْلَحُ: لوہا لوہے سے کٹتا ہے۔ مرادی معنی: سختی کا سختی سے مقابلہ کرنا چاہئے۔ أفْلَحَ و إسْتَفْلَحَ: پنپنا، کامیابی سے چلنا (کاروبار وغیرہ کا) فروغ پانا، خوش ہو جانا — فی: میں کامیاب ہونا، خوش نصیب ہونا۔ فَلاح: پنپنا، فروغ، نجات، خوشحالی، بہبود، کامیابی، کامرانی۔ فِلاحَة: کاشت، کاشتکاری، کھیتی باڑی، زراعت۔ فَلاّح جمع فَلاّحون و فَلاّحَة: کاشتکار۔ فَلاّحَة: کاشتکار عورت۔ فَلاّحِی: کاشتکاری کا، زرعی، دیہاتی۔ فَالِح: خوش قسمت، کامیاب۔ مُفْلِح: خوش قسمت، کامیاب، پنپنے والا، فروغ پانے والا، خوش حال۔

فلخ: فَلَخَ ۔ فَلْخًا الشیءَ: کو پھاڑنا — الامرَ: کو واضح کرنا۔ فَلَّخَ ہ: کو مارنا۔ الفَیْلَخ جمع فَیَالِخ ہاتھ کی چکی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فلذ: ا۔ فَلَذَ -فَلْذًا له من المال شيئًا: کو مال میں سے کچھ دینا۔ - الشیءَ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اِفْتَلَذَہٗ المالَ: کے مال میں سے تھوڑا سا لینا۔ - من فلان حقہٗ: سے اپنا حق لینا، چھیننا۔ الفِلْذ جمع افلاذ: اونٹ کا کلیجہ۔ الفِلْذة جمع فِلَذ و فِلْذ و افلاذ: جگر، گوشت یا سونے وغیرہ کا ٹکڑا۔ افلاذ الارض: زمین کے خزانے۔

۲۔ الفالوذ و الفالوذ ج و الفالوذق جمع فوالیذ (ط): فالودہ۔ (فارسی لفظ)۔ الفولاذ جمع فوالیذ (ك): فولاد، لوہا (فارسی لفظ)۔ المفلوذ من السیوف: فولاد کی بنی ہوئی تلوار۔

☪ فِلذة كبده: اس کا اپنا خون، اس کا اپنا بچہ۔

فلز: الفِلِزّ و الفِلِزّ و الفُلُزّ: ایک قسم کا سفید تانبا، لوہے کا میل، زمین کی تمام دھاتیں، بڑا سخت آدمی، کنجوس، جس کو تلوار کو مار کر آزمایا جائے۔

☪ فِلِزّ و فِلَزّ جمع فِلِزّات: دھات۔

فلس: ا۔ فَلَّسَ القاضی فلانًا: قاضی کا کسی کو دیوالیہ قرار دینا۔ اَفْلَسَ: مفلس وقلاش ہونا۔ صفت مُفْلِس جمع مُفْلِسون و مَفالیس۔ الفَلْس جمع اَفْلُس و فُلوس: پیسہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ فَلْسٌ من کلِّ خیر: فلاں شخص ہر بھلائی سے تہی دامن ہے۔ فُلوسُ السمك: مچھلی کے اوپر کے چھلکے اور کھرنڈ۔ الفَلّاس: صراف، پیسے فروخت کرنے والا۔ المُفَلَّس (مفع): وہ آدمی یا جانور جس کی کھال پر مچھلی جیسے کھرنڈ ہوں۔

۲۔ تَفَلْسَفَ: فلسفی ہوجانا، فلسفہ آرائی کرنا، علمی اور دانائی کی باتوں پر بحث کرنا، ماہر و حاذق ہونے کا دعویٰ کرنا۔ الفلسفة: حکمت، دانائی، مسائل علمیہ میں غور و فکر، اشیاء کے مبادی اور علل اولیٰ کا علم۔ یہ لفظ یونانی زبان کا ہے اور فیلیا (محبت) اور صوفیا (حکمت و دانائی) سے مرکب ہے۔ یعنی حکمت کی محبت۔ الفَیْلَسوف جمع فلاسِفة: فلسفی، فلسفہ کا عالم۔ ارسطو طالیس (یونانی لفظ)۔

☪ فَلَّسَہٗ: کو دیوالیہ قرار دینا۔ اَفْلَسَ: دیوالیہ ہونا یا ہو جانا، ناکام ہونا، تباہ و برباد ہوجانا۔ تَفْلیس: دیوالیہ پن کا اعلان (جمع) تفالیس: دیوالیہ پن، ناکامی۔ اِفلاس: دیوالیہ پن، ناکامی۔ مُفْلِس جمع مَفالیس: دیوالیہ۔ فلسطین: فلسطین (ایک ملک) Palestine۔ فلسطینی: فلسطینی جمع فلسطینیون: فلسطینی، فلسطین کا باشندہ۔ فَلْسَفَ و تَفَلْسَفَ: فلسفہ آرائی کرنا۔ تَفَلْسَفَ: فلسفی بننا، اپنے آپ کو فلسفی ظاہر کرنا۔ فَلْسَفَة: فلسفہ۔ فلسفی: فلسفیانہ، فَیْلَسوف جمع فلاسِفة: فلسفی۔ مُتَفَلْسِف: فلاسفی۔

فلش: فَلَشَ الأمتعة و فَلْفَشَها: سامان کو الٹ پلٹ کرنا، بکھیر دینا، گڈمڈ کرنا، خلط ملط کرنا (سریانی عام زبان کا لفظ)۔ المَفلوش: اپنے معاملات سے اچھی طرح نبٹ نہ سکنے والا (عام زبان میں)۔

فلص: فَلَصَ الرجلُ: کو چھڑانا۔ اَفْلَصَ و تَفَلَّصَ و اِنْفَلَصَ: رہائی پانا۔

فلط: ا۔ فَلَطَ -فَلْطًا عن الشیء: سے دہشت زدہ اور حیران ہونا۔ فالَطَہٗ: کو اچانک یا بے خبری میں آلینا، کو پانا۔ اَفْلَطَہٗ الامرُ: کا اچانک یا بے خبری میں آلینا، یا پیش آنا۔ اُفْتُلِطَ بالامر: میں اچانک مشغول کیا جانا۔ الفَلَط: اچانک۔

۲۔ فَلْطَحَ فَلْطَحَةً القُرْصَ: ٹکیہ پھیلانا، چوڑا کرنا۔ الفِلْطاح: چوڑا کیا ہوا۔ تَفَلْطُحُ او تبطیط الارض: زمین کے استوائی اور قطبی قطروں کے درمیان فرق استوائی قطر پر منقسم ہونے کی صورت میں جو ۲۹۷/۱ ہے جب کہ مشتری کا فرق ۱۵/۱ ہے۔

☪ فِلْطاح: چوڑا، چوڑا کیا ہوا، چپٹا، سپاٹ۔ مُفَلْطَح: چوڑا، چوڑا کیا ہوا، چپٹا، سپاٹ۔

فلع: فَلَعَ -فَلْعًا و فلع الشیءَ: کو پھاڑنا۔ تَفَلَّعَ: پھٹنا۔ اِنْفَلَعَ: پھٹنا اور ٹکڑے ہوجانا۔ الفَلْع و الفِلْع جمع فُلوع: قدم وغیرہ کی پھٹن۔ الفِلْعَة جمع فِلَع: کوہان کا ایک ٹکڑا۔ الفالِعَة جمع فَوالِع: مصیبت۔ سیف فَلوع جمع فُلُع و مُفَلَّع: تلوار قاطع۔ مزادة مُفَلَّعَة: چمڑے کے ٹکڑوں سے سلا ہوا توشہ دان۔

☪ فَلْع و فِلْع جمع فُلوع: شگاف رخنہ، دراڑ پھٹن۔

فلغ: فَلَغَ -فَلْغًا رأسَہٗ: کا سر توڑنا، کچلنا، زخمی کرنا۔ تَفَلَّغَ الشیءُ: ریزہ ریزہ ہونا۔

فلق: ا۔ فَلَقَ -فَلْقًا و فَلَقَ الشیءَ: کو پھاڑنا۔ - اللہُ الصبحَ: اللہ کا اندھیرا پھاڑ کر صبح کو ظاہر کرنا۔ تَفَلَّقَ: پھٹنا۔ - الصبحُ: صبح کا ظاہر ہونا۔ اِنْفَلَقَ: پھٹنا۔ الفالِق (فا): پہاڑ میں شگاف۔ الفالِقة: فالق کا مونث: دو ٹیلوں کے درمیان کی ہموار زمین۔ الفَلْق (مص) جمع فُلوق: پھٹن، شگاف۔ کہا جاتا ہے: فی رِجلِه فُلوق: اس کے پاؤں میں پھٹنیں ہیں۔ کلَّمَنی من فَلْقِ فیه: اس نے مجھ سے اپنے منہ کے شگاف سے بات کی۔ فَلْقُ الرأس: سر کا وسط، مانگ۔ مُثَلَّثاتُ الفُلوق (ح): تین قسم کے قدیم متحجر خول دار جانور۔ الفِلْق: پھاڑی ہوئی چیز کا آدھا۔ کلمنی من فِلْقِ فیه: دیکھو کلمنی من فَلْقِ فیه۔ الفَلَق جمع فُلْقان: صبح، دو ٹیلوں کے درمیان ہموار زمین، تمام مخلوق، اشکال کے بعد حق کی وضاحت، جہنم، پہاڑ کا شگاف۔ - جمع افلاق: وہ لکڑی جس میں رسی کے کنارے باندھ کر مجرم کے دونوں پیروں میں ڈالی جاتی تھی۔ - من اللبن: پھٹا ہوا دودھ۔ الفِلْقة جمع فِلَق: پھٹی ہوئی چیز کا آدھا ٹکڑا۔ الفَلْقة: پھٹی ہوئی چیز کا آدھا۔ لبنٌ فُلاق و فَلوق: پنیر بنا ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے: صار اللبنُ فُلاقًا و فِلاقًا و اَفلاقًا: ترشی کی وجہ سے دودھ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا۔ الفُلاقة جمع فُلاق: ٹکڑا۔ الثمر الفَلیق و المُفَلَّق: خشک پھل جو کہ پھٹ کر گٹھلی سے جدا ہوگیا ہو۔

۲۔ اَفْلَقَ الشاعرُ: عجیب کلام کہنا۔ صفت: مُفْلِق۔ - بالامر: میں ماہر ہونا۔ تَفَلَّقَ: تیز دوڑنے کی کوشش کرنا۔ اِفْتَلَقَ: عجیب کام کرنا، شاہکار پیش کرنا، دوڑنے کی کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے: مرَّ یفتلق فی عَدْوِہ: وہ دوڑ میں عجیب تیزی کے ساتھ گزرا۔ الفِلْق: عجیب امر، مصیبت۔ الفِلْقة جمع فِلَق: مصیبت۔ الفَلیق و الفَلیقة و المَفْلَقة و الفَلَقی: مصیبت۔ (کسی غلط بات پر تعجب کے وقت کہتے ہیں یا للفلیقة کیا مصیبت ہے)۔ امر عجیب۔ الفَیْلَق جمع فَیالِق: لشکر عظیم، بڑا آدمی۔ امرأةٌ فَیْلَقٌ: بڑی چالاک شور مچانے والی عورت۔ شاعرٌ مُفْلِق: انوکھا کلام کہنے والا شاعر۔ المِفْلاق جمع مَفالیق: فواحش اور منکر کام کرنے والا۔

۳۔ الفَلَق جمع اَفلاق: پیالہ کی تہ میں بچ جانے والا دودھ، حقارت کے طور پر کہا جاتا ہے: یا ابنَ شاربِ الفَلَق۔ الفُلْقان: خالص جھوٹ۔ الفَلیق: گردن کی ابھری ہوئی رگ۔ رجلٌ فَیْلَق: کانا، یک چشم۔ المِفلاق: مفلس قلانچ۔ رجلٌ مِفلاق: برا، کمینہ اور رذیل آدمی۔

۴۔ فَلْقَحَ ما فی الاناء: برتن میں موجود چیز پی جانا۔ تَفَلْقَحَ الی القوم: کو خوشخبری دینا۔ — الولدُ: کند ذہن ہونے کے بعد فارغ التحصیل ہونا (عام زبان میں)۔ الفَلْقَحیّ: ہنس مکھ۔

☪ فَلَقَ -فَلْقًا ہ: کو (لمبائی کے رخ) پھاڑنا، لکڑیوں میں بانٹنا، تقسیم کرنا، دو ٹکڑے کرنا، چیرنا، میں شگاف ڈالنا، کو جدا کرنا، کاٹ ڈالنا، (صبح) طلوع کرنا، رات کے پردے دور کرنا (اللہ تعالیٰ کا)۔ فَلَّقَ ہ: کو (لمبائی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے رخ) پھاڑنا، ٹکڑیوں میں بانٹنا، کو تقسیم کرنا، کے دو ٹکڑے کرنا، کو چیرنا، میں شگاف ڈالنا۔ تَفَلَّقَ: پھٹنا، ٹکڑیوں میں بٹنا، تقسیم ہونا، چرنا، جدا ہونا، میں شگاف پڑنا، شگافوں والا ہونا، دراڑوں والا ہونا۔ اِنْفَلَقَ بمعنی تَفَلَّقَ: تیز۔ اِنْفَلَقَ: پو پھٹنا، صبح طلوع ہونا۔ اِنْفَلِقْ: جاؤ مرو، جہنم میں جاؤ۔ فَلْق جمع فُلُوق: شگاف، پھٹن، درز، دراڑ۔ فَلَقٌ: دن، سویرا، تڑکا، فجر، طلوع صبح، طلوع سحر۔ فِلْقَة جمع فِلَق: پھٹی ہوئی یا تقسیم شدہ چیز کا نصف۔ فَلَقَة: پاکوبی کے دوران مجرم کی ٹانگیں پکڑے رکھنے کا ایک آلہ۔ فَیْلَق: فوج کی ایک بڑی یونٹ (وحدت)، فوجی دستہ، پلٹن۔

فلک: ا۔ فلک ـ فَلْكًا ثدیُ الجاریة: لڑکی کے پستان کا گول ہونا۔ ــــ الجاریۃُ: لڑکی کے پستانوں کا گول ہونا۔ صفت: فَالِك جمع فَوَالِك۔ فَلَّكَتِ الجاریۃُ: لڑکی کے پستان کا گول ہونا۔ ــــ الثدیُ: پستان کا گول ہونا۔ اَفْلَكَ الثدیُ: پستان کا گول ہونا۔ تَفَلَّكَ ثدیُ الجاریة: لڑکی کے پستان کا گول ہونا۔ ــــ فلانٌ: غیب کی خبر دینا (عام زبان میں)۔ اِسْتَفْلَكَ ثدیُ الجاریة: لڑکی کے پستان کا گول ہونا۔ الفُلْك: کشتی (مذکر و مونث)۔ الفَلَك جمع فُلْك و فُلُك و اَفْلَاك: ستاروں کے چکر لگانے کی جگہ۔ واحد فَلَکة جمع فِلَاك: زمین کے قطعے جو اردگرد کی چیزوں سے اونچے ہوں، ریت کا ٹیلہ جس کے گرد کھلی فضا ہو۔ ــ من البحر: موج دریا جہاں پانی جمع ہو کر چکر کھانے لگے۔ ــ من کل شیء: ہر شئے کا گول اور بڑا حصہ۔ فَلَكُ البروج (فلک): دائرہ یا کرہ جسے سورج چلتے ہوئے ایک سال میں بناتا ہے۔ یہ دائرہ ۱۲ برجوں میں منقسم ہے۔ ہر دائرہ ۳۰ درجے کا ہوتا ہے۔ ــ التدویر عند الاقدمین (فلک): سیار ستارے کا وہ دائرہ جس پر وہ چلتا ہے جب کہ مرکز فلک ایک دوسرے دائرہ پر جو زمین کے گرد ہے پر چلا جاتا ہے۔ اسے فلک الاوج کہتے ہیں۔ عِلْمُ الفَلَك (فلک): علم ہیئت، ستاروں کا علم (astronomy)۔ الفَلِك: ابھری ہوئی ہڈیوں والا، سخت جوڑوں والا، زانو کی چپنی میں درد والا۔ رَجُلٌ فَلِك: بڑے سرین والا مرد۔ الفَلْکة جمع فَلَك و فِلَاك: فلک کا واحد: ہر بلند یا ابھری اور گول چیز، ایک پتھر کا گول ڈھیر۔ فَلْکةُ المِغزل جمع فِلَك: چرخے کا ٹکڑا، عام لوگ اسے ثَقّالة المغزل کہتے ہیں۔ الفَلَکی: فلک کا یا فلک کے متعلق، فلکی۔ علم فلکیات کا عالم، ہیئت دان (astronomer)، نجومی، جوتشی، منجم (astrologer)۔ الأَفْلَك: جو ریت کے ایسے ٹیلے کے گرد چکر لگائے جس کے چاروں طرف میدان ہو۔ الإِفْلِیکَان (ع ا): حلق کے کوے کے گرد گوشت کے دو ٹکڑے۔ المُفْلِك و المُفَلَّك من النساء: گول پستان والی عورت۔

۲۔ فَلَّكَ و اَفْلَكَ الرجلُ فی الامر: پر اصرار کرنا۔

۳۔ الفِلِكْسِیرة (ح): ایک کیڑا جو انگور کی بیل کی جڑوں کو تباہ کر دیتا ہے۔

فَلَّكَ: مستقبل کی پیشین گوئی کرنا، پیش گوئی کرنا۔ فلك جمع اَفْلَاك: آسمانی کرہ، جرم سماوی: ستارہ، دائرہ، اجرام سماویہ کا مدار۔ عِلْمُ الفلك: علم فلکیات، علم ہیئت، جوتش، نجوم۔ فُلْك (مذکر و مونث): جہاز، بہت سے جہاز، حضرت نوح کی کشتی، کشتیء نوح، سفینہ نوح۔ فَلَکی: آسمانی، سماوی، فلکی، جوتش کے متعلق، ہیئت سے متعلق، فلکیاتی، جمع فَلَکِیُّون (فلکیة): ہیئت دان، ماہر فلکیات، فلکیات کا عالم، جوتشی، نجومی۔ عَالِمٌ فَلَکی: ہیئت دان، ماہر فلکیات، عالم فلکیات، جوتشی، نجومی۔ مَفْلُوك: بدقسمت، بدنصیب۔ مُفَلَّك: گول پستانوں والی لڑکی۔ فَلُوکة جمع فَلَائِك: یک مستولی جہاز، کشتی۔ فَلَائِکی (فلایکی): کشتی والا، کشتی بان، مانجھی۔ فَلْكَنَ ہ (ربڑ کی چیز) کی مرمت کرنا، کو ولکنائز کرنا (ربڑ کو) گندھک ملا کر سخت کرنا۔ vulcanize

فِلم جمع افلام: فلم، متحرک فلم۔ فِلْمٌ مُجَسَّمٌ: تین ابعاد والی فلم (3D film)۔ فلمٌ مُلَوَّن: رنگین فلم، فلم نَاطِق: بولتی فلم۔

فَلَمَنْدِی: ملک فلینڈرس کی زبان، فلینڈرس کی، ملک لینڈرس کا باشندہ (Fleming, Flemish)۔ فَلَمَنْکی: ولندیزی، ہالینڈ کا، نشیبی ممالک کا باشندہ (یعنی ہالینڈ اور بلجینم کا)۔

فلم: اِفْتَلَمَ انفَهُ: (کی) ناک کاٹنا۔ الفِلْم جمع اَفْلَام: فلم، فلمی کہانی۔ کہا جاتا ہے: فِلْمٌ جمیلٌ: خوبصورت فلمی کہانی۔

فلن: فُلَانٌ و فُلَانَةٌ: فلاں ذوی العقول کے ناموں کی جگہ بطور کنایہ بولے جاتے ہیں۔ اسی لئے ان پر الف لام (علامت معرفہ) داخل نہیں ہوتے۔ فلانة: غیر منصرف ہے۔ کہا جاتا ہے: جاء فلانٌ و لکن جاءت فلانة: کبھی غیر ذوی العقول کے لئے بھی کنایہ ہوتے ہیں۔ اس وقت ان پر الف لام ال داخل ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو: رکبتُ الفلانَ۔ حلبتُ الفلانة: (میں نے فلاں جانور پر سواری کی اور فلاں جانور کا دودھ دوہا)۔

فلان مونث فلانة: فلاں (کسی شخص یا چیز جس کا نام نہ لیا جائے یا جو غیر متعین ہو کی جگہ استعمال ہوتا ہے)۔ فلان: فلاں So and so۔ فُلَانی مونث فُلَانیة: (فلاں کی صفت)۔ فی الساعة الفلانیة فلاں وقت (at such and such time)۔

فَلِّین و فِلِّینة: کارک (cork) ڈاٹ۔ فَلِّنْكَة جمع فَلِّنْكَات: ریل کی پٹری کا سلیپر۔

فلو: ا۔ فَلَا ـ فَلْوًا و فلاءً: سفر کرنا۔ اَفْلَی الرجلُ: جنگل کی طرف جانا یا اس میں داخل ہونا۔ الفلاة جمع فلوات و فلا و فَلِیّ و فِلِیّ و جمع فلا: افلاء: وسیع بیابان۔ الفلا عند العامة: کھلی زمین (جس پر چھت نہ ہو) کہتے ہیں: نام فی الفلا: وہ ایسی جگہ سویا جس پر چھت نہ تھی۔

۲۔ فَلَا ـ فَلْوًا و فلاءً الصبیَّ او المهرَ: بچے یا بچھیرے سے دودھ چھڑانا اور ماں سے جدا کرنا۔ ــــ الغلامَ: لڑکے کی پرورش کرنا۔ اَفْلَی الصبیَّ او المهرَ بمعنی فلا الصبی او المهر۔ و ـ الغلام: بمعنی فلا الغلامَ ــــ ت الفرسُ: گھوڑی کا بچھیرے والی ہونا یا اس کے بچھیرے کا دودھ چھڑانے کے وقت کو پہنچنا۔ صفت: مُفْلٍ و مُفْلِیَة۔ اِفْتَلَی الصبیَّ او المهرَ: بچے یا بچھیرے کا دودھ چھڑانا اور اس کی ماں سے جدا کرنا۔ ــ الغلامَ: لڑکے کی پرورش کرنا۔ ـ هُ لنفسِهِ: کو اپنے لئے لینا۔ الفِلْو جمع اَفْلَاء و فِلَاء و الفَلُوّ و الفُلُوّ جمع افلا و فَلَاوَی ہ فِلْوَة و فُلُوَّة: گدھے کا بچہ یا بچھیرا جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو یا دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچ گیا ہو۔

۳۔ فَلَا ـ فَلَاءً و فَلْوًا هُ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ ـ القومَ: قوم کے درمیان میں آنا۔

فِلْو جمع اَفْلَاء و فَلُوّ و فُلُوّ جمع افلاء و فَلَاوَی: بچھیرا، گدھی کا بچہ۔ فَلًا (اسم جمع واحد فلاة) جمع فَلَوَات و اَفْلَاء: بے آب بیابان، ریگستان، کھلا علاقہ، کھلی جگہ۔ المَفَالِی: چراگاہیں، چرنے کی زمینیں۔ فِلُوْر: فلورین fluorine۔ مُفَلْوَر: ٹیوب کی روشنی دینے والا fluorescent۔

فلی: ا۔ فَلَی ـ فَلْیًا الامرَ: کا جائزہ لینا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ ــ الشِعرَ: شعر پر غور کر کے اس کے معانی اور غرائب کا استخراج کرنا۔ ــــ زیدًا عن عقله: کی آزمائش کرنا۔ اِفْتَلَی القومَ بعینه: لوگوں کو غور سے دیکھنا۔

۲۔ فَلَی ـ فَلْیًا و فَلَّی تَفْلِیَةً راسَهُ او ثوبَهُ: سر یا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کپڑے سے جوئیں نکالنا۔ تَفَلّٰی: سر یا کپڑے میں سے جوئیں نکالنا۔ الطائِرُ: پرندہ کا چونچ سے پروں کو کھجلانا۔ تَفَالٰی: کسی سے جوئیں نکالنے کی خواہش کرنا۔ ۔ت النساءُ: ایک دوسرے کی جوئیں نکالنا۔ ۔ت الحُمُرُ: گدھوں کا ایک دوسرے کے بدن سے رگڑنا اور کھجلی مٹانا۔ اِسْتَفْلٰی: کسی سے جوئیں نکالنے کی خواہش کرنا۔ الفِلایَۃ: جوئیں نکالنا۔

۳۔ فَلٰی ۔فَلْیًا ہُ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ ــــ القومَ: لوگوں کے درمیان میں آنا۔ فَلِیَ یَفْلٰی فَلاً الشیءُ: کٹنا، منقطع ہونا۔ اَفْلٰی و افْتَلٰی القومَ: لوگوں کے درمیان آنا۔ اسْتَفْلٰی ہٗ: کو تلوار سے پھاڑنے کے درپے ہونا۔ الفالِیۃ: چھری۔

۴۔ الفالِیۃ (ج): داغدار گبریلا جو سانپوں کے قریب رہا کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسے فالیۃ الافاعی بھی کہتے ہیں۔ فالیۃ الافاعی: مقدمات شر کا پیش خیمہ۔ الفَلُّیُون و فَلُّیُونۃ عند النصاری: وہ لڑکا جسے کوئی شخص بپتسمہ کے لئے پیش کرے، لڑکا اس شخص کا دینی بچہ ہوتا ہے۔ وہ شخص اس کا دینی باپ، ایسی بچی اس کی دینی بیٹی اور وہ شخص اس کا دینی باپ اور جو عورت اس بچے/بچی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ ان کی دینی ماں کہلاتی ہے (اٹلی زبان کا لفظ)۔ الفِلِّین واحد فِلِّینَۃ: ڈاٹ (cork) (یونانی لفظ)۔

۞ فالِیَۃ: گوبر کا داغدار بھونرا۔

۞ الفلبین: جزائر فلپائن۔

فم: الفَمُ و الفُمُ والفِمُ من الانسان (ع ا): منہ۔ یہ اصل وضع کے لحاظ سے فُوہٌ۔ اس کا تثنیہ فَمان و فَمَوَانِ و فَمَیان ہے اور اس کی جمع اَفْوَاہٌ (اس کے اصل کے اعتبار سے) اور اَفْمَامٌ۔ اور نسبت کرتے وقت فَمِیّ اور فَمَوِی استعمال کرتے ہیں۔

۞ فَمّ و فُمّ (رفعی حالت میں فُو بھی) جمع افواہ) جمع اَفْمام: منہ (انسان کا)، تھوتھنی (جانور کی) (بندوق کی نال کا) منہ، (خلا، جوف گڑھے وغیرہ کا) مونہہ، دہانہ، موکھا، روزن، سوراخ، موری، (دریا کا) دہانہ، (نہر کا) پرلا سرا، (سگرٹ، پائپ کا) مہنال، سگرٹ دار (Cigaratte holder)۔ فَمُّ الحوت: ایک ستارہ کا نام۔ الآت الفم: ہوا باجے، پون، باجے (wind instruments)۔

فنّ ۱۔ فَنَّ ۔فَنًّا الشیءَ: کو مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ ــ الابلَ: اونٹ کو دفع کرنا، ہانک کر لیجانا۔ فَنَّنَ الناسَ: لوگوں کو جدا جدا کرنا، لوگوں کی مختلف قسمیں اور جماعتیں مقرر کرنا۔ ــــ رایَہٗ: طرح طرح کی رائے بدلنا۔ ــ الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری میں ملانا، کو آپس میں خلط ملط کرنا۔ تَفَنَّنَ الشیءُ: قسم بہ قسم ہونا، متنوع ہونا۔ ــ فی الحدیث او فی عملہ: بات کو عمدگی اور خوش اسلوبی سے بیان کرنا۔ اِفْتَنَّ: قسم بہ قسم ہونا، متنوع ہونا۔ ــــ فی خصومتِہ: دشمنی کی مختلف قسمیں استعمال کرنا۔ ــ الحمارُ باُتُنِہ: گدھے کا گدھیوں کو دائیں بائیں سیدھا یا بے سیدھ دھکیلنا اور ہانکنا۔ اِسْتَفَنَّ فَرَسَہٗ: گھوڑے کو کئی چالیں چلانا۔ الفَنّ (مص) جمع اَفْنَان و فُنُون و جج اَفَانِین: ہر شئے کی ایک نوع اور قسم، رنگ، حال، فن، فنکاری (art)۔ فُنُونُ الشِعْر: شعر کی قسمیں۔ الفُنُونُ الجَمِیلَۃُ: فنون لطیفہ (the fine arts)۔ (تصویر کشی، مصوری، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، موسیقی، شاعری، بلاغت، فن تعمیر، رقص)۔ الفنون اللذیذۃ: رقص، موسیقی، گلوکاری، گھڑ سواری جن سے لذت حاصل ہو۔ الفنون الحرّۃ: جن میں دستکاری سے زیادہ سوچ سے کام لیا جائے جیسے شعر گوئی۔ الفنون الیَدوِیَۃ او الحِیَلِیَۃ: جن میں عقل سے زیادہ ہاتھ کا کام ہو جیسے سنگ تراشی۔ افانین الکلام: کلام کے مختلف اسلوب۔ کہا جاتا ہے: ھو فِنُّ عِلمٍ: وہ علم کی ذمہ داری اچھی طرح نباہ رہا ہے۔ الفَنَّۃ: اسم مرۃ۔ الفَنَّان: فنکار، تخلیق کار، جنگلی گدھا جو کئی طرح دوڑتا ہے۔ الاُفْنُون جمع اَفَانِین: قسم۔ المِفَنّ م مِفَنَّۃ: عجیب و غریب ایجادات کرنے والا۔ التَفْنِین فی الثوب: بافت میں ناہمواری۔ کہا جاتا ہے: ثوبٌ ذو تفنین: ناہموار بافت۔ المُتَفَنِّن (فا): گونا گوں حالات والا، گونا گوں صنعتوں والا۔

۲۔ فَنَّ ۔فَنًّا الرجُلَ: کو مشقت میں ڈالنا۔ الفَنّ: مشقت۔ کہا جاتا ہے: لقیتُ منہ فنًّا: اس سے مجھے تکلیف پہنچی۔

۳۔ فَنَّ ۔فَنًّاہُ فی البیعِ: کو فروخت میں نقصان پہنچانا۔ ۔ الدَّین: قرض کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا۔

۴۔ تَفَنَّنَ: مضطرب ہونا۔ الفَنَن جمع اَفْنَان و جج اَفَانِین: سیدھی شاخ، سیدھی ٹہنی۔ الفَنَّۃ: بہت گھاس۔ شجرۃٌ فَنَّاء و فَنْوَاء: بہت شاخوں والا درخت۔ الاُفْنُون جمع اَفَانِین: گنجان ٹہنی، آغاز جوانی، پہلا بادل، مضطرب کلام۔ الفَیْنَان: لمبے بالوں والا۔ شَعَرٌ فینان: لمبے لمبے خوبصورت بال۔

۵۔ الفَنَّۃ: زمانہ کی ایک مدت۔ الاُفْنُون جمع اَفَانِین (ج): سانپ۔ المُفَنَّنَۃ: بدخلق بوڑھی عورت۔

۞ فَنّ ہ: میں تنوع پیدا کرنا، کو بدلنا، کو مختلف کرنا، کو بو قلموں بنانا؛ میں اختلاف یا رنگارنگی پیدا کرنا، کو خلط ملط کرنا، میں آمیزش کرنا، میں ملاوٹ کرنا۔ تَفَنَّنَ: گونا گوں، بوقلموں، طرح طرح کا، مختلف النوع، بھانت بھانت کا، رنگا رنگا، انواع و اقسام کا، قسم قسم کا، مختلف، کئی پہلوؤں والا یا ہمہ گیر ہونا یا ہو جانا، مختلف قسموں کا استعمال کرنا۔ ــــ فی: میں ماہر ہونا، استاد، استاد فن یا ماہر فن ہونا، میں کمال حاصل کرنا، استاد ہو جانا، حاوی ہونا۔ اِسْتَفَنَّ بمعنی تَفَنَّنَ۔ فَنٌّ جمع فُنُون و اَفْنَان و افانین: قسم، مثال، بوقلمونی، مختلف چیزوں کا مجموعہ۔ جمع اَفَانِین: کے مختلف پہلو، گونا گونی، تفاوت۔ اَفَانِین مِن: سب قسم کی، متعدد، متفرق، چند، مختلف، گونا گوں، طرح طرح کا۔ الجنونُ فنون: پاگل پن کئی قسم کا ہے اور کئی طرح اپنا اظہار کرتا ہے۔ جمع فُنُون: سائنسی ادب، کام کا میدان، خصوصی شعبہ، امتیازی خصوصیت، فن (art)۔ الفن الحربی: فن حربی۔ الفنون الجمیلۃ یا الفنون الرفیعۃ یا الفنون المستظرفۃ: فنون لطیفہ۔ فنُّ المکتبات: لائبریری سائنس/علم Library science۔ الفنُّ الصُحُفِی: صحافت کا علم، صحافت suience of journalism, journalism)۔ فَنِّی: خصوصی، متخصص، سپیشلسٹ، ماہر، پیشہ ورانہ، پیشہ ور، صنعتی، فنی، ماہرانہ، ہنروارانہ، تکنیکی، فنکارانہ، فنکار، شاطرانہ، مصافیاتی فوجی ترتیب سے متعلق، لشکر کشی سے متعلق، جنگی، حربی، حکمت عملی یا چال کا یا کے متعلق، فنی ماہر، مستری، کاریگر، فنکار۔ فَنِّیَۃ: فنکاری۔ فَنَن جمع اِفْنَان: ٹہنی، شاخ۔ فَنَّان جمع فَنَّانون: فنکار، عاملٌ فُنَان جمع عُمَّالٌ فنانون: فنکارانہ صلاحیت کا دستکار، تجارتی فنکار (commerc'ial artist)۔ فَنَّانۃ: فنکارہ (فن کار عورت)۔ اُفْنُون جمع افانِین: (درخت کی) شاخ، ٹہنی۔ تَفَنُّن: تنوع، رنگا رنگی، گونا گونی، تعدد، مختلف الانواعی، متعدد پہلوؤں والا ہونا، ہمہ دانی، قسم قسم کی سرگرمی، مختلف شعبوں میں سرگرمی یا عمل یا مستعدی، پوری مہارت، کمال، دسترس، ماہرانہ یا طرحدار اسلوب۔ اِفْتِنَان: بمعنی تفنن۔ مُتَفَنِّن: کثیر الاضلاع متعدد پہلوؤں والا، ہر فن مولا ہمہ دان، صاحب کمال، متلون، غیر مستقل۔ مُفْتَنّ: ماہر، حکومت پسند، اپنے میدان یا شعبہ میں صاحب کمال۔

فنأ: الفَنْءُ: جماعت، گروہ۔ الفَنَاء: کثرت، بہتات۔

فنج: ۱۔ فَنْجَرَ عینیہ: ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا (عام زبان میں)۔ الفَنَاجِرَۃ: ماہر گھوڑے سوار۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ الفِنجَان جمع فَنَاجِين: پیالہ، پیالہ (قہوہ وغیرہ پینے کا) (فارسی لفظ پنگان کا معرب)، سر کا ایک زیور۔ الفنجانة: پیالی (قہوہ وغیرہ پینے کی)

☆ فَنَار جمع فَنَارَات: روشنی کا مینار (light houre)۔

فِنْجَال جمع فَنَاجِیل: پیالہ (بمعنی فنجان)

جَعَلَ زَوْبَعَةً في فنجان: اس نے ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیا، معمولی سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ (He caused a tempest in a tea-cup)۔

فنجَرَ عینيه في: کسی شخص یا چیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔

فنخ ۱۔ فَنَخَ ــ فَنْخًا ه: پر غالب ہونا، کو مطیع بنانا۔ ـــ عظمَهُ: بغیر چیرے اور خون نکالے ہڈی کو توڑ دینا۔ ـــ فَنْخًا و فنوخا ه: کو خوب اچھی طرح قتل کرنا۔

فَنَّخَ ه: پر غالب ہونا، کو مطیع بنانا۔ ـــ عظمَهُ: بغیر چیرے اور خون نکالے ہڈی کو توڑ دینا۔ أَفْنَخَ رأسَهُ: کا سر کچلنا، کو مطیع کرنا۔ تَفَنَّخَ ه: پر غالب ہونا، کو بہت بری طرح سے ذلیل کرنا۔ الفَنِيخ: نرم، کمزور، بوڑھا۔ المِفْنَخ: دشمنوں کی اکثر سرکوبی کر کے ان کو ذلیل کرنے والا۔

۲۔ فَنْخَرَ فَنْخَرَةً: نتھنے پھلانا۔ الفُنَاخِر م فُنَاخِرَة: بڑی ناک والا، بڑے ڈیل ڈول والا۔ الفُنْخُر م فُنخرَة: بڑے ڈیل ڈول والا۔ الفِنْخِيرَة: بہت فخر کرنے والا۔

☆ فَنَخَ ــ فَنْخًا ه: کو نچوڑنا، بھینچنا، دبانا، کچلنا، کو باطل کرنا، فسخ کرنا، ناجائز کرنا، بے کار کرنا، بے اثر کرنا، کالعدم کرنا (ٹھیکہ، معاہدہ) توڑ دینا۔

فند: ۱۔ فَنِدَ ــ فَنَدًا: سٹھیانا، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا۔ ـــ في الرأي او القول: رائے یا قول میں غلطی کرنا۔ فَنَّدَهُ: کی رائے کی غلطی یا کمزوری واضح کرنا، کو ملامت کرنا۔ ـــ الحساب: حساب کی تفصیلات پیش کرنا (عام زبان میں)۔ أَفْنَدَ: سٹھیا جانا، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہو جانا۔ ـــ في الرأي او القول: رائے یا قول میں غلطی کرنا۔ ـــ ه: کی رائے کی غلطی واضح کرنا۔ ـــ هُ الكِبَرُ: بڑھاپے کا کسی کو ضعیف العقل کر دینا۔ الفَنَد (مص) جمع أفناد: عاجزی، کفرانِ نعمت۔

فَنَدَ ــ فَنْدًا و أَفْنَدَ: جھوٹ بولنا۔ فَنَّدَهُ: کو جھٹلانا۔

۳۔ فَنَدَ في الشراب: شراب پر مداومت کرنا۔

۴۔ فَنَّدَ الفرسَ: گھوڑے کو دبلا اور چھریرا بنانا۔ ـــ الكرمَ: انگور کی بے مصرف شاخوں کو کاٹ ڈالنا (عام زبان میں)۔ الفِنْد جمع فنود و أفناد: ٹہنی، شاخ۔

۵۔ فَنَّدَ و فَانَدَ و تَفَنَّدَ فلانًا على الامر: سے کسی کام کی طلب کرنا یا اس کا ارادہ رکھنا۔

۶۔ تَفَنَّدَ من كذا: پر نادم و پشیمان ہونا۔

۷۔ الفِنْد: بڑا پہاڑ۔ الفِنْد جمع فُنُود و أفناد: بڑا پہاڑ، قسم، نوع، مجتمع قوم۔ (کہا جاتا ہے: اتوا أفنادًا: وہ جماعتوں کی صورت میں آئے، گروہ در گروہ آئے) وہ زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔ أفنادُ الليل: رات کے حصے، رات کے پہر۔

۸۔ الفُنْدُق جمع فَنَادِق: سرائے، ہوٹل، ایک جھاڑی ہیزل کے پھل کی گری۔ الفنداق جمع فَنَادِيق: حساب کا رجسٹر۔

☆ فَنَّدَهُ: کو جھوٹا کہنا، کو غلط ثابت کرنا۔ ـــ ہ/ ہ کو غلط ثابت کرنا، کی تغلیط کرنا، کی تردید کرنا۔ ـــ ہ کو ترتیب دینا، کی درجہ بندی، کی تعیین کرنا، کی صراحت کرنا، کی تفصیلات دینا؛ کو مفصل بیان کرنا، کو پوری طرح بیان کرنا؛ کے کوائف درج کرنا، کو شق وار لکھنا۔ أفنَدَهُ: کو غلط ثابت کرنا۔ ـــ ہ/ ہ کو غلط ثابت کرنا، کی تغلیط کرنا، کی تردید کرنا۔

فنر: الفَنَار جمع فنارات: روشنی کا مینار، کاغذ کی لالٹین، مشعل۔

فنس: الفَانُوس جمع فوانِيس: چغل خور، مشعل، لالٹین (غالباً یہ لفظ غیر عربی ہے)۔

فنش: فَنَّشَ في الامر: کو ڈھیل دینا۔ میں سست ہونا۔

☆ فَنَّطَ ه: کو مفصل بیان کرنا، کا نام بنام ذکر کرنا، کو تفصیل وار بیان کرنا، کو شق وار شمار کرنا۔

فنط: الفِنْطَاس جمع فَنَاطِيس: بحری جہاز میں پانی کا تالاب، میٹھے پانی کا حامل پیالہ، پیالہ جس میں میٹھا پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ انفُ فِنْطاس: چوڑی ناک۔ الفِنْطِيسَة: سور کی تھوتھنی۔ الفِنْطِيس جمع فناطِيس: کمینہ، چوڑے نتھنوں اور چپٹے بانسہ والی ناک، چوڑی ناک والا۔

فنع: فَنِعَ ــ فَنَعًا: مالدار ہونا صفت: فَنِع و فَنِيع۔ الفَنَع (مص): سخاوت کی زیادتی فضل واسع، ہر شے کی کثرت، مشک کی مہک۔ کہا جاتا ہے: مسك ذو فَنَعٍ: پھیلی ہوئی خوشبو والی مشک۔ المِفْنَع: اچھی شہرت والا، نیک نام۔

☆ فنغراف جمع فنغرافات: صوت نگار آلہ، فونوگراف (phonograph)۔

فنق: ۱۔ فَنَّقَ و فَانَقَ الغُلامَ: لڑکے کو ناز و نعمت سے پالنا۔ أَفْنَقَ: تنگی کے بعد صاحب نعمت ہونا۔ تَفَنَّقَ الغلامُ: لڑکے کا ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا۔ جارية فُنُقٌ و مِفْنَاقٌ: ناز و نعمت میں پلی ہوئی لڑکی۔ الفَنِيق جمع فُنُق و أفناق: نراونٹ جسے اس کی شرافت کی وجہ سے نہ تو سواری کے کام میں لایا جاتا ہو اور نہ تکلیف پہنچائی جاتی ہو۔ الفَنِيقَة جمع فنائق: ناز و نعمت میں پلی ہوئی عورت۔ عَيْشٌ مُفَانِق: خوش عیش زندگی۔

۲۔ تَفَنَّقَ في الامر: کام ہوشیاری سے کرنا۔

۳۔ الفَنِيقَة جمع فَنَائِق: گون سے چھوٹا بورا۔

☆ تَفَنَّقَ: خوش عیش ہونا، ناز و نعم کی زندگی گزارنا۔

فنك: ۱۔ فَنَكَ ــ فُنُوكًا بالمكان: جگہ میں اقامت کرنا۔ ـــ و أَفْنَكَ على الامر: کام میں مداومت کرنا۔ ـــ في الامر: میں جمے رہنا، لگے رہنا۔ فَنَّكَ تفنيكًا في الشر او الكذب: شر اور جھوٹ میں منہمک رہنا۔ فَانَكَ مُفَانَكَةً في الامر: کام کرتے رہنا۔ ـــ في الشرّ او الكذب: برائی اور جھوٹ میں منہمک رہنا، پر اصرار کرنا۔ الفِنْك: دروازہ۔

۲۔ فَنَكَ ــ فُنُوكًا و أَفْنَكَ: جھوٹ بولنا۔

۳۔ الفَنَك: تعجب۔ الفِنْك و الفُنْك: رات کا ایک پہر۔ الفَنَك: تعجب، رات کا ایک پہر۔ (ح) لومڑی کی طرح کا ایک جانور جس کا سمور بیش قیمت ہوتا ہے۔ الفَنِيك: انسان کے جبڑوں کے ملنے کی جگہ، پرندوں کی دم نکلنے کی جگہ۔ حامِضُ الفنيك (ك): فنول (phenol)، کاربالک ایسڈ (carbolic acid) اسے فنیک بھی کہتے ہیں (فرانسیسی لفظ)۔ الإفنيك: پرندے کی دم نکلنے کی جگہ۔ المُتَفَنِّكَة: بے وقوف عورت۔

☆ فِنْلَنْدا: فنلینڈ (Finland) (ایک ملک کا نام)۔ فِنْلِندی: فنلینڈ کی زبان، فنلینڈ کا باشندہ۔

فنو: الفَنَاة جمع فَنَوَات: مینگنی۔ ـــ جمع فَنًا (ن): مکو کا دانہ (عنب الثعلب)۔ شَجَرَةٌ فَنْوَاء: بہت شاخوں والا سایہ دار درخت۔

فنی: ۱۔ فَنِيَ و فَنَى يَفْنَى فَنَاءً: معدوم ہونا، فنا ہونا۔ ـــ الرجلُ: بہت بوڑھا ہونا۔ أَفْنَى إفناءً الشيءَ: کو معدوم کرنا، فنا کرنا، ہلاک کرنا۔ تَفَانَى القومُ: بعض کا بعض کو ہلاک کرنا۔ الفَانِي (فا): بہت بوڑھا، مرنے کے قریب شخص۔ کہا جاتا ہے: صار شيخًا فانيًا: وہ بہت بوڑھا ہو گیا۔ الفَنَاءُ (مص): بقا کی ضد، ہلاکت۔

۲۔ فَانَى مُفَانَاةً الرجلَ: کی مدارات کرنا، کو دم دلاسا دینا یا تسکین دینا۔ کُمیت کا قول ہے: كما يفاني الشموسَ قائدُها جس طرح اڑیل گھوڑے کو ہانکنے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والا دلاسا دیتا ہے تاکہ اس کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ المالَ: کی اصلاح کرنا، کہا جاتا ہے: کان یفانی الایامَ لاهیًا: وہ زمانہ کو کھیل کود میں بسر کیا کرتا تھا۔

۳۔الفِناء جمع أَفْنِیَة و فُنِیّ: گھر کے سامنے کا میدان، صحن۔فِناءُ الطیور: مرغیوں، خرگوشوں وغیرہ کے ڈربے۔کہا جاتا ہے هو من أفْنَاءِ الناس: وہ غیر معروف النسب ہے۔واحد فِنْوٌ۔

فنی فَنِيَ فی: میں مستغرق ہونا۔لا یفنی: لازوال، اَمر، اِمِٹ، جو ختم نہ ہوسکے۔أفْنَى ہ: کو نیست و نابود کرنا، کو تباہ و برباد کرنا، کو ختم کر دینا، خرچ کر دینا، برت ڈالنا، اڑا دینا، ضائع کر دینا، صرف کرنا۔ ـــ ہ ہ: کو سے خرچ کرا دینا، ختم کرا دینا۔تَفَانی فی: سے صرف ہونا، خرچ ہوجانا، میں اپنے آپ کو کھو دینا، کی پوری مدد کرنا، دل و جان سے اپنے آپ کو کیلئے وقف کر دینا۔فَنَاء: مرجانا، ختم ہوجانا، تباہی، بربادی، فناء کامل، زوال، فنا، اختتام، انعدام، باقی نہ رہنا، نیستی، عدم، لاوجود، انفرادی شعور کا باقی نہ رہنا، خودی کا مٹانا۔فِنَاء: کھلا ہال، صحن، گھر کے ایک طرف کھلی جگہ۔رحَابَةُ الفناء: مہمان نواز استقبال، فیاضانہ مہمان نوازی۔یسار یخطو فی فناء الغرفة: وہ کمرے میں ٹہلا۔إفْنَاء: نیست و نابود کرنا، تباہی بربادی۔تَفَانٍ: ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنا، نفس کشی، (کسی سرگرمی میں) قربانی، ایثار۔فَانٍ: مٹ جانے والا، گزر جانے والا، نقش برآب، چند روزہ، فانی، ناپائدار، سریع الزوال، دم بھر کا، بہت عمر رسیدہ۔

فینیقی: فونیشیا کا رہنے والا۔فینیقیة و فنیقیا: فونیشیا (ساحل شام پر واقع)۔

فة: فَهِهَ ـَ فَهَاهَةً: بول چال میں درماندہ و عاجز ہونا۔صفت فَهٌّ و فَهِيهٌ۔فَهَّ ـَ فَهَاهَةً: بمعنی فَهِهَ۔ ـــ فَهًّا الشیءَ و عن الشیءِ: کو بھول جانا۔فَهَّهَ اللّٰهُ الرجلَ: اللہ کا آدمی کو عاجز کرنا۔أفَهَّ اللّٰه الرجلَ: بمعنی بالا۔ ـ الشیءَ: کو کوئی بات وغیرہ بھلا دینا۔الفَهَّة: الفه کا مونث، عاجزی، غفلت، لغزش، کہا جاتا ہے ما رایتُ منه فَهَّةً: میں نے اس کی کوئی لغزش نہیں دیکھی۔

فَهَاهَة: کمزوری، بے بسی، نامردی۔

فهد: افَهِدَ ـَ فَهَدًا لفلان: کسی کے کام کو اس کی غیر حاضری میں اچھا کرنا۔

۲فَهِدَ ـَ فَهَدًا: (سونے انگڑائی لینے یا غصہ میں) تیندوے جیسا ہونا، کسی ضروری کام سے غفلت کر کے سو جانا۔صفت فَهِدٌ و فَهْدٌ۔ ـ عنه: سے غافل ہونا۔الفَهْد جمع فُهُود و أفْهُد (ح): تیندوا (کتے سے بڑا اور چیتے سے چھوٹا)۔الفَهْدَة جمع فَهْدَات: تیندوے کی مادہ۔الفَهَّاد: تیندوے کو شکار سکھانے والا، تیندوے والا۔

۳۔الفَهْدَة: سُرین، چوتڑ۔الفَوْهَد م فَوْهَدَة و الأُفْهُود جمع أفَاهِید: کم سن موٹا تازہ لڑکا۔

فهر: افَهَرَ الفرسُ: کے چلنے میں تھکن اور عجز کا پیدا ہونا۔ ـ الرجلُ: تھک جانا۔

۲۔فَهَرَ زیدٌ: موٹائی اور گوشت کے مجتمع ہوجانے سے بدزیب ہونا۔المَفَاهِر: سینہ کا گوشت۔

۳۔أفْهَرَ: فُهْر (یہودیوں کی عید) میں شریک ہونا۔الفُهْر: یہودیوں کی ایک عید یا بائبل سکول جس میں وہ اپنی عید کے دن اکٹھے ہوتے ہیں۔

۴۔تَفَهَّرَ فی المال و الکلام: مال میں اضافہ ہونا، کلام میں معتبر ہونا۔

۵۔الفِهْر جمع أفْهَار و فُهُور و الفِهْرَة (طب): دوا رگڑنے کا باریک پتھر۔

۶۔فَهْرَسَ فَهْرَسَةً الکتابَ: کتاب کی فہرست بنانا۔الفِهْرِس و الفِهْرِسْت جمع فَهَارِس: فہرست کتب (catalogue)۔کتاب کے شروع یا آخر میں فہرست مضامین (فارسی لفظ)۔

فَهْرَسَ فَهْرَسَةً کتابًا: کتاب کا اشاریہ مرتب کرنا۔فِهْرِس و فِهْرِست جمع فَهَارِس: فہرست مضامین، اشاریہ فہرست کتب، فہرست۔

فهص: فَهَصَ ـَ فَهْصًا ہ: کو توڑنا، کچلنا۔

فهق: افَهَقَ ـَ فَهْقًا الرجلَ: کی گردن کی جڑ کی ہڈی پر مارنا۔الفَهْقَة جمع فِهَاق (ع ا): گردن کی جڑ کی ہڈی جو کہ اول الفقار کہلاتی ہے۔

۲فَهِقَ ـَ فَهْقًا و فَهَقًا الإناءُ: برتن کا بھر کر چھلکنا۔أفْهَقَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔تَفَهَّقَ و انفَهَقَ الحوضُ بالماء: تالاب کے پانی کا چھلکنا۔الفَاهِقَة: وہ زخم جس سے خون جاری ہو بہنر۔مِفْهَاق: بہت پانی والا کنواں۔

۳۔أفْهَقَ البرقُ و غیرہ: آسمانی بجلی وغیرہ کا پھیل جانا۔تَفَهَّقَ و انفَهَقَ البرقُ و غیرُهُ: آسمانی بجلی وغیرہ کا پھیل جانا۔المُنْفَهِق: کشادہ۔

فهم: فَهِمَ ـَ فَهْمًا و فَهَمًا و فَهَامَةً و فِهَامَةً و فَهَامِيَةً الامرَ او المعنی: کسی امر یا معنی کا جاننا، [illegible] کام یا بات سمجھا دینا۔تَفَهَّمَ الکلامَ: کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا۔تَفَاهَمَ القومُ: بعض کا بعض سے سمجھنا۔اِستَفْهَمَ ہُ الامرَ: کو بات سمجھانے کے لئے کہنا، سے بات دریافت کرنا۔الفَهْم (مص): کسی چیز کا تصور، سمجھ، ادراک۔الفَهِم: جلدی سمجھنے والا، سمجھدار۔الفَهَّامَة: بہت سمجھنے والا (تاء مبالغہ کے لئے ہے)۔الفَهِیم جمع فُهَمَاء: سمجھدار۔

فَهِمَ ـَ فَهْمًا و فَهَمًا ہ: کو سمجھنا، کا ادراک کرنا، کو ذہن میں لانا، کو پوری طرح سمجھ لینا، کو ذہن نشین کرنا، پر دھیان کرنا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ ـــ ہ من: سے کچھ سننا، سے کچھ معلوم کرنا، سے کے بارے میں جاننا، مطلع ہونا۔فَهِمَ عنه: کو سمجھنا، سمجھنا کہ وہ کیا کہتا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے۔یُفْهَم أن: کہا جاتا ہے کہ، خبر یہ ہے کہ، ہم سمجھتے ہیں کہ۔فَهَّمَ ہ ہ: کو کچھ سمجھانا یا دکھانا، کو کچھ سکھلانا، کو یقین دلانا کہ، کو خیال دلانا کہ۔أفْهَمَ بمعنی فَهَّمَ۔تَفَهَّمَ ہ: کو سمجھنے یا اس کا ادراک کرنے کی کوشش کرنا، کو بالتدریج سمجھنا، کی تہ تک پہنچنا، کو سمجھنا، کا ادراک کرنا۔تَفَاهَم: ایک دوسرے کو سمجھنا ایک دوسرے سے باتیں کرنا۔ ـــ مع علی: کے ساتھ کے بارے میں معاہدہ کرنا، سمجھوتہ کرنا۔تَفَاهَم: سمجھا جانا، ادراک ہونا۔اِنْفَهَم ہ: کو سمجھنا، کا ادراک کرنا۔اِستَفْهَم ہ ہ/عن: سے کے بارے میں دریافت کرنا، کو کچھ پوچھنا یا کے بارے میں پوچھنا۔فَهْم جمع أفْهَام: سمجھ، ادراک، صلاحیت، قابلیت، استعدادِ مدرکہ، شعور، ادراک، دماغ، ذہن، ذہانت، عقل و فہم، فراست، نکتہ رسی، بصیرت، زیرکی، دقیقہ رسی، تیز فہمی، معرفت، گہری نظر، پرکھ، پہچان، علم و واقفیت، آگاہی، اطلاع۔فَهِم: ہوشیار، ذہین، حاضر دماغ، تیز فہم۔فَهِیم جمع فُهَمَاء: دانشمند، صاحب بصیرت، زیرک، ہوشیار، ذی شعور، واقف کار، معاملہ فہم، مدرک، ذی حس، باخبر، آگاہ ذی ہوش، عاقل، دانا معاملہ فہم، موقع شناس، چتر، سیانا، ہوشیار، خبردار، دانشمند، تیز فہم، ذی شعور۔فَهَّامَة: بہت سمجھدار، انتہائی ہمدرد، غم خوار۔تَفْهِیم: تعلیم، تربیت، صحیح اور واضح سمت کا تعین، راست رخ بندی۔تَفَهُّم: بتدریج سمجھ، سمجھ اور ادراک۔تَفَاهُم: مفاہمت، باہمی سمجھوتہ، اتفاق رائے، موافقت، ہم آہنگی، خوشگوار تعلقات۔ ـــ مع علی: کے ساتھ پر یا کے بارے میں مفاہمت، سمجھوتہ۔ ـــ مع: کے ساتھ اتفاق اتحاد، ہم آہنگی۔سوءُ التفاهم: باہمی غلط فہمی، اختلاف، بے ہنگی، نااتفاقی، ان بن،

marfat.com

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نزاع۔ اِسْتِفْهام عن، علی: کے متعلق دریافت کرنا، پوچھ گچھ۔ استفهام: سوال۔ علامة الاستفهام: سوالیہ نشان۔ استفهامی: سوالیہ (گرامر)۔ مَفْهُوم: سمجھا ہوا، قابل فہم، معلوم، معروف، معنی، مفہوم، مطلب، ٹھیک مفہوم۔ — جمع مَفَاهِيم۔ خیال، تصور، رائے نظریہ۔ المَفْهُوم: لفظی معنی میں لفظی طور پر، واضح غیر مبہم طور پر۔ المفهوم ان: کہا جاتا ہے کہ، بیان کیا جاتا ہے کہ۔ سوء الفهم: غلط فہمی۔

فہو: فَهَا ـِ فَهْوًا عن الامر: کو بھول جانا۔ الافْهَاء: بیوقوف لوگ۔

فو: فز: دیکھو مادہ فوہ۔

فوت: ا۔ فَاتَ ـُ فَوْتًا و فَوَاتًا الامرُ: گزرنا، کام کرنے کا وقت جاتا رہنا۔ — ہ الامرُ: سے کام کا نہ ہونا، اور کے ہاتھ سے نکل جانا۔ — ہ فلانٌ فی کذا: سے کا میں آگے بڑھ جانا۔ — الشیءَ: سے تجاوز کرنا۔ — فی الشیء: میں داخل ہونا (عام زبان میں)۔ فَوَّتَ ہُ: کو داخل کرنا (عام زبان میں)۔ — الوردُ و نحوُہُ: گلاب وغیرہ توڑنے کا وقت گزر جانا، اور اس کی پتیوں کا بکھر جانا اور خوشبو مدھم ہو جانا (عام زبان میں)۔ أَفَاتَ إِفَاتَةً ہُ الامرَ: کو معاملہ گزار دینا، اور اس سے لیجانا۔ تَفَوَّتَ علیه من مالِه: پر غلبہ کرکے اس کا مال لیجانا۔ افْتَاتَ ہُ الامرُ: معاملہ کا اس کے ہاتھ سے نکل جانا۔ — الکلامَ: نئی بات کہنا۔ الفَوَات (مص): موتُ الفَوَات: اچانک موت۔

۲۔ تَفَاوَتَ تَفَاوُتًا و تَفَاوِتًا و تَفَاوَتًا الشیئان: دو چیزوں میں اختلاف اور دوری کا ہونا۔ تَفَاوَتَا فی الفضل: فضل و کمال میں مختلف اور متباین ہونا۔ الفَوْتُ جمع أَفْوَات: دو انگلیوں کے درمیان کشادگی۔ کہا جاتا ہے: جعل اللّٰهُ رزقَهُ فوتَ فمِهِ: اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق ایسا بنایا ہے کہ وہ اسے دیکھتا ہے مگر اس تک پہنچتا نہیں۔

۳۔ افْتَاتَ علی فلانٍ فی الامر: معاملہ میں کسی پر حکم چلانا۔

۴۔ افتات برأیه: خودرائی کرنا۔ — بامره: کو دوسروں سے مشورہ کئے بغیر خود کر لینا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ یُفتاتُ علیه: کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ الفُوَيْت: خودرائے، جو کسی سے مشورہ نہ کرے (مذکر و مؤنث)۔

۞ فَاتَ ـُ فَوْتًا و فَوَاتًا: مرجانا، فوت ہوجانا، جاتا رہنا، ختم ہوجانا، گزرجانا۔ — ہ: کے پاس سے گزرنا، سے بچ نکلنا، کو طرح دے جانا۔ — چپکے سے نکل جانا، کھسک جانا۔ — ہ: کو ترک کرنا، کو پیچھے چھوڑ دینا۔ — ہُ: سے پہلے کرنا، پیش بندی کرنا۔ — ہ ب: کے ذریعہ پر سبقت لیجانا۔ فَاتَ الوقتُ: (بہت) تاخیر ہو چکی ہے۔ فَاتَهُ أن: کے ذہن سے نکل گیا کہ، وہ کو نہ کر پایا، اس نے کو نظر انداز کر دیا، وہ کو بھول گیا، وہ کو کرنے میں ناکام ہوا، وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ اس نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ لم یفته أن: وہ کو کرنے میں ناکام نہیں ہوا، اس نے کو کرنا نظر انداز نہیں کیا۔ فَاتَتْهُ الفرصة: اس نے موقع گنوا دیا۔ فاتهُ القطارُ: وہ ٹرین نہ پکڑ سکا۔ فَوَّتَ ہ علی: کو سے بچ نکلنے دینا۔ — علی ہ: کو کچھ گنوا دینے یا نہ پکڑ سکنے کا باعث بنا۔ — ہ: کو گزرنے دینا۔ — ہ: کو منتقل کرنا، فروخت کرنا۔ أفَاتَ ہ ہ: کسی چیز کو کسی سے بچ نکلنے دینا۔ — ہ ہ: کے ہاتھ سے کچھ نکلنے دینا، کے کچھ ہاتھ نہ آنے دینا۔ تَفَاوَتَ: مختلف ہونا، غیر مشابہ ہونا۔ إفْتَاتَ علی: قانون شکنی کرنا، کے خلاف کرنا، کو جھٹلانا، افشا کرنا، ظاہر کرنا۔ فَوْت: نجات، چھٹکارا جمع أَفْوَات: فاصلہ، وقفہ، درمیانی فاصلہ، فصل، اختلاف، فرق۔ فَوات: گزرنا، وقت گزرنا، وقفہ (وقت کا)۔ فَوَاتُ الأجل: مقررہ وقت کا گزرنا، مقررہ وقت کا ختم ہو جانا۔ الفوات بالمُدّة: پیرانہ سالی کے باعث برطرفی یا پنشن دے کر الگ کرنا۔ بعد فوات الوقت (الأوان): بہت تاخیر سے۔ قبل فوات الوقت (یا الاوان): زیادہ دیر ہونے سے پہلے پہلے۔ فُوَيت (مذکر و مؤنث): خودرائے اپنی رائے پر چلنے والا/والی، صرف اپنے طریقے سے کام کرنے والا/والی۔ تفويت: انتقال ملکیت، منتقلی فروخت۔ تفاوت: اختلاف، عدم تشابہ، فرق، نمایاں فرق، عدم آہنگی۔ افتيات علی: سے غداری، بغاوت، کا افشائے راز، کی خلاف ورزی۔ فائت: گزرا ہوا وقت، گزرنے والا، جلدی گزر جانے والا، دم بھر کا، چند روزہ، ناپائیدار، عارضی۔ متفاوت: مختلف۔

فوج: ا۔ فَاجَ ـُ فَوْجًا المسكُ: مشک کی خوشبو کا بھڑکنا، پھیلنا، مہکنا۔ أفَاجَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ — الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔

۲۔ فَاجَ ـُ فَوْجًا النهارُ: دن کا ٹھنڈا ہونا۔ فَوَّجَ عن نفسه: اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا۔ کہا جاتا ہے: لستُ براجعٍ حتی أفوّجَ: میں جب تک اپنے آپ کو ٹھنڈا نہ کرلوں، نہیں جاؤں گا۔

۳۔ استُفيجَ: کو ہلکا سمجھا جانا، کو سنجیدگی سے نہ لیا جانا، کو کوئی اہمیت نہ دیا جانا۔

۴۔ الفَوْج جمع أفْوَاج و فُؤُوج جج أفَاوِج و أفَايِج و أفَاوِيج: جماعت، گروہ، فوج کا دستہ، رسالہ۔ الفانجة: جماعت، سخت زمین یا ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان میں کشادہ جگہ۔

۞ فَوْج جمع أفْوَاج: گروہ، جمگھٹا، انبوہ شفث، ہجوم، فوجی دستہ، منڈلی، جتھہ، کسی خاص مہم پر بھیجا جانے والا فوجی دستہ، پارٹی، بٹالین، رجمنٹ۔ أفواجًا: انبوہ در انبوہ، گروہ در گروہ۔ تبدُّل الفوج: شفٹ کی تبدیلی

فوح: فَاحَ ـُ فَوْحًا و فُؤُوحًا و فَوَحَانًا ت القِدرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ — ت الشجّةُ: زخم کا خون پھینکنا۔ — الزهرُ: پھول کا مہکنا — المسكُ او الطيبُ: مشک یا خوشبو کا بھڑکنا۔ أفَاحَ الدمَ: خون گرانا، بہانا۔ — القِدرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔ تَفَاوَحَ الزهرُ: پھول کا مہکنا، کی خوشبو بھڑکنا۔ فوحُ الحرّ: گرمی کی شدت۔

۞ فاح منه شذا القداسة: وہ ایک مقدس شخص مشہور ہوا۔ فَوْحة: خوشبودار ظہور، خوشبو کا سانس۔ فَوّاح: خوشبو پھیلاتا ہوا۔

فوخ: فاخ ـُ فَوَاخًا و فَوَخَانًا ت الريحُ: ہوا کا چلتے وقت آواز نکالنا۔ — الرجلُ: گوز کرنا۔ — الزِقّ: مشک کا منہ کھول کر ہوا نکالنا۔

فود: ا۔ فَادَ ـُ فَوْدًا: مرنا۔ أفَادَ إفادةً الرجُلَ: کو مارنا، ہلاک کرنا۔ المِفْوَاد: تلف کرنے والا۔

۲۔ فَادَ ـُ فَوْدًا المالُ لفلان: مال فلاں کے قبضہ میں رہنا۔ اس سے الفائدہ اسم ہے۔ أفَادَ إفادةً فلانٌ المالَ: مال جمع کرنا، کمانا۔ — فلانًا مالًا او علمًا: کو مال یا علم عطا کرنا، کو مال یا علم کے ذریعے فائدہ پہنچانا۔ إستِفادَهُ: کو حاصل کرنا۔

۳۔ فَادَ ـُ فَوْدًا الشیءَ بالشیء: چیز کو چیز میں ملانا۔

۴۔ تَفَوَّدَ الوعلُ فوق الجبل: پہاڑی بکری کا پہاڑ پر چڑھنا۔

۵۔ الفَوْد جمع أفْوَاد (ع ا): کنپٹی، کنپٹی کے بال۔ (کہا جاتا ہے: بدا الشيبُ بفَوْدَيه: اسکی دونوں کنپٹیاں سفید ہوگئیں)، بڑا تھیلا، گون، فوج، کنارہ۔ فَوْدُ الخِباء او الوادی: خیمہ یا وادی کا کنارہ۔

۶۔ الفودج: ہودج، دلہن کی پالکی۔

فور: فَارَ ـُ فَوْرًا و فَوَرَانًا و فُؤُورًا ت القِدرُ: ہانڈی کا جوش کھانا اور ابلنا۔ — الماءُ: پانی کا زمین سے پھوٹ نکلنا اور بہنا۔ — العِرقُ: رگ کا پھڑکنا۔ — فَوارًا و فَوَرَانًا المسكُ: خوشبو کا بھڑکنا۔ — فَوراً و أفارَ القِدرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔ الفائر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(فا): بھڑکے ہوئے غصہ والا۔ فار فائِرُہٗ: اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔ فارۃُ الابل: اونٹوں کی کھال کے تر ہوجانے کے بعد کی بدبو۔ الفور (مص): بہت جلدی۔ کہاجاتا ہے: رجع من فوْرِہ: وہ بلاتوقف بہت جلد واپس ہوا۔ فورُ کلِّ شيءٍ: ہر چیز کا اول۔ الفوْرۃ من الحرّ او الغضب: گرمی یا غصہ کی شدت وتیزی۔ کہاجاتا ہے: أخذتُ الشيءَ بفوْرتِہ: میں نے چیز کو اس کی ابتداء ہی میں لے لیا۔ فورۃ النہار: دن کی ابتداء۔ العشاء: عشاء کی نماز کے بعد کا وقت۔ ۔ الناس: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ ۔ الکبد (طب): جگر کا التہاب۔ الفوارۃ: ہانڈی کا اُبال۔ الفوّار: مبالغہ کا صیغہ، بہت جوشیلا۔ الفوّارۃ: فوّار کا مؤنث: پانی نکلنے کی جگہ، چشمہ (عام لوگوں کے نزدیک): فوارہ (fountain)۔ الغیُور: بہت جلد غضبناک ہونے والا۔

۲۔ فارَ فوْرًا و افار المیزان: ترازو کی زبان کے اِدھر اُدھر کے لوہے بنانا۔ فِیاران: ترازو کی زبان کے اِدھر اُدھر کے لوہے۔

۳۔ الفار واحد فارۃ (ج): چوہا، جدید ادباء کی ضرب المثل ہے: حبل الجبل فولَدَ فارۃً: (لفظی ترجمہ: پہاڑ کو حمل ہوا تو اس نے چوہیا جنی) کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ الفُوْر مُفرد فائر (ج): ہرنیاں۔ کہاجاتا ہے: لا افعلہ ما لألاتِ الفُوْر: جب تک ہرنیاں اپنی دم ہلاتی رہیں گی، میں یہ کام نہیں کروں گا، مراد کبھی نہیں کروں گا۔

فَارَ فَوراً و فَوَرانًا: ابلنا، سنسنانا، ابلنے کی قریب ہونا، بلبلے اڑانا ۔ بلبلے ابھرنا یا نکلنا، غرغر بہنا، غصے یا جوش میں ہونا، بلبلے چھوڑنا، آگ بھبھوکا ہونا، زور سے نکلنا، تیزی سے نکلنا (پانی کا زمین سے)۔ فوّرَ ہ: کو اُبالنا، برانگیختہ کرنا، جوش میں لانا، بھڑکانا۔ افَارَ ہ: کو اُبالنا۔ فَوُر: ابلنا، سنسنانا، بلبلے ابھرنا، نکلنا یا اڑانا، آپے سے باہر ہونا، بھپکا، جوش، ابال۔ فوراً: فوراً، فی الفور، اسی وقت، اسی دم، بلاتاخیر۔ مِن الفور، من فورہ من فورھا یا علی الفور: فوراً، فی الفور، اسی وقت، اسی دم، بلاتاخیر۔ فَورِی: فوری، بلاتاخیر۔ فوْرۃ: بھبھوکا، طیش، ہٹ پڑنا، بدمزاجی کا غلبہ۔ فوّار: ابلتا ہوا، ابلنے والا، پُرجوش، آپے سے باہر ہوجانے والا، جوش یا ابال کی حالت میں، سنسناتا، سائں سائں کرنا، بلبلے اٹھاتا، جھاگ دار، کف دار، تیز مزاج، جوشیلا، زود رنج، جلد طیش میں آجانے والا۔ فَوَران: ابلنا، سنسنانا، بلبلے اڑانا یا نکالنا، آپے سے باہر ہونا، بھپکا، جوش، ابال، بھڑک اٹھنا، غصہ میں لال پیلا ہونا، آگ بگولا ہونا، ہیجان۔ فَائِرۃ: اودھم، دھما چوکڑی، ہنگامہ، گڑبڑ، شور وغوغا، ہلچل، اضطراب، جوش۔

فوز: ا۔ فَازَ فوزاً بالامر: میں کامیاب ہونا۔ ۔ من المکروہ: ناپسندیدہ چیز سے نجات پانا۔ فوّز تفویزاً الطریقُ: ظاہر ہونا، نظر آنا۔ أفَازَ فُلانًا بکذا: کو میں کامیاب کرنا۔ المَفازۃ جمع مَفازات و مفاوز: کامیابی کی جگہ یا سبب، نجات کی جگہ یا سبب۔

۲۔ فازَ فوزاً الرجُلُ: ہلاک ہونا، مرجانا۔ فوّز تفویزاً: ایک زمین سے دوسری زمین میں جانا۔ ۔ الرجلُ: گزرنا، مرنا۔ ۔ الراعی بابلہ: چرواہے کا اپنے اونٹوں کے ساتھ جنگل طے کرنا۔ تَفوّزَ: ایک زمین سے نکل کر دوسری میں جانا۔ الفازۃ: دو کھمبوں والا سائبان۔ کہاجاتا ہے: ضربَ الفازۃَ بالمفازۃ: اس نے بیابان میں خیمہ لگایا۔ المفازۃ جمع مَفازات و مَفَاوِز: ہلاکت کی جگہ یا سبب، وہ بیابان جس میں پانی نہ ہو۔

فَازَ فَوزًا: کامیاب ہونا، فتح یاب ہونا، فتح حاصل کرنا۔ ۔ ب: کو حاصل کرنا، کو جیتنا، کو انجام دینا، بجا لانا، پورا کرنا، میں کامیاب ہونا، فائز المرام ہونا، کو لینا، پانا۔ ۔ علی ب: سے (دشمن) کو شکست دینا، کو سے/ کے ذریعے مات دینا۔ فاز من: سے بچ نکلنا، سے نجات یا چھٹکارا حاصل کرنا۔ ما فاز بطائلٍ: ناکام رہنا، کچھ نہ کرسکنا۔ فوّزَ: بیابان عبور کرنا، بیابان میں سفر کرنا۔ فَوز: کامیابی، فتح، حصول، تکمیل، فائز المرامی، نجات۔ مَفازۃ جمع مفازات و مَفَاوِز: بیابان، ریگستان۔ فائِز: کامیاب، فاتح، جیتنے والا، مونث فائِزہ۔

فوسفات: فاسفیٹ (phosphate)۔

فوش: الفُوشِیا (ن): ایک نباتات، جس کے پھول خوبصورت اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔

فوض: ا۔ فوّضَ تفویضًا الیہ الامرَ: کے کوئی معاملہ سپرد کرنا، کو اختیار سونپ دینا، کو میں حاکم بنا دینا۔ المُفوَّض: بااختیار کارکن، کارندہ، ڈپٹی، مختار، کمشنر حاکم، اعلیٰ۔ المُفوّض السامی: ہائی کمشنر۔ وَزِیر مُفوّض: مدار المہام Minister plenipotentiary۔ مفوّضُ الشرطہ: پولیس کمشنر۔ المُفوّضیۃ: کمشنر کا دفتر یا منصب، چھوٹے درجے کا سفارت خانہ۔ المفوّضیۃ العلیا: ہائی کمشنر کا دفتر۔ مُستشار المفوّضیۃ: چھوٹے درجے کے سفارت خانہ کا مشیر۔

۲۔ فوّض تفویضًا المرأۃ: عورت کا مہر کے بغیر [illegible] کرنا۔

۳۔ فَاوَضَ مُفاوَضۃً ہٗ فی الامر: میں برابر ہونا، میں برابر کا شریک ہونا، پر سے بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا۔ تَفاوَضَ القومُ فی کذا: میں بعض کا بعض کے ساتھ شریک ہونا، میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ ۔ الشریکان فی المال: مال میں برابر کا شریک ہونا۔ تَفَاوَضُوا فی الحدیث: بات چیت شروع کرنا۔ کہاجاتا ہے: قومٌ فَوْضَی: ایسے لوگ جو برابر کے درجے کے ہوں اور ان کا کوئی سربراہ نہ ہو۔ امرُھُمْ فَوْضَی بینھم و فَوْضُوضَی و فَوْضُوضاء: یہ لوگ ایسے شریک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک شخص دوسرے کے معاملہ میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ اموالُھم فَوْضوضَی بینھم و فَوْضُوضَی و فَوْضُوضَاء: وہ سب مال میں برابر کے شریک ہیں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں۔ الفَوْضَویّ: نراجی۔ الفَوْضَوِیّۃ: لاحکومیت، فوضویت، بدنظمی، نراج، طوائف الملوکی (anarchy)۔ المَفَاوَضۃ (مص): کہاجاتا ہے: شرکۃٌ مُفاوَضَۃٌ و شرکۃُ مُفاوَضۃٍ: ایسی شرکت جس میں شریک مال، تصرف اور دین (قرض) کے لحاظ سے برابر ہوں۔ اس کے مقابلہ میں شرکۃ العِنان ہے۔ مُفاوَضۃ العلماءِ: علمی مسائل میں مذاکرہ اور مباحثہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی تحقیق معلوم ہوجائے۔

فَاشِی: فسطائی، فاشستی (fascist)۔ فُوصُفُور: فاسفورس (phosphorus)۔

فَوّضَ الی/ل ہ: کے کچھ سپرد کرنا، کو کی تحویل میں دینا، کو کے حوالے کرنا، کو کا مختار بنانا۔ ۔ ل/الی: کو اختیار دینا، مختار کرنا، مجاز کرنا، کو نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجنا، کو مکمل اختیار دینا۔ فَاوَضَ ہ: کی گفت وشنید کرنا۔ ۔ فی ہ/مع: سے کے بارے میں مشورہ کرنا، صلاح مشورہ کرنا، سے کے بارے میں بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا۔ تَفاوَض فی: پر، کے بارے میں ایک دوسرے سے مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا۔ ۔ فی: کی گفت وشنید کرنا۔ ۔ فی مع: کے بارے میں کے ساتھ بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا۔ فَوضَی: گڑبڑ، خرابی، ابتری، افراتفری، پراگندگی، الجھن، سخت بدنظمی، نراج، فوضویت۔ تَفوِیض: سپرد کرنا، حوالہ کرنا، اختیار دینا، اختیار تفویض کرنا، اختیار، اختیارات تفویض کرنے والا فرمان (رائے دہندگان کی نمائندوں کو) ہدایت، انتدابی اختیار، مختار کا ذریعہ، مختار نامہ، مختاری۔ تفویض مطلق او تام:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عام مختاری غیر محدود اختیار۔ وثيقة التفويض: مختار نامہ۔ مُفاوَضة جمع مُفاوَضات: تذکرہ، بات چیت، گفتگو، شراکت۔ فتح باب المفاوضات: بات چیت یا مذاکرات کا آغاز کرنا۔

فوط: فَوَّطَ ہٗ: کو پٹکہ یا پٹی پہنانا۔ الفُوطَة جمع فُوَط: پٹکا یا پٹی جسے خدام، چپڑاسی یا اردلی وغیرہ پہنتے ہیں، لفظ سندھی یا ترکی زبان کا بتایا جاتا ہے ـــ عند العامة (عوام کے نزدیک): دستی رومال جس سے ہاتھ پونچھے جائیں۔ اسے منشفة بھی کہتے ہیں۔ ناک صاف کرنے کا رومال۔

○ فُوطة جمع فُوَط: پیش بند (apron)، بچے کے سینہ پر لگایا ہوا فالتو کپڑا، (pin afore)، دستپاک (napkin)، کھانے کی میز کا رومال (serviette)، تولیہ صافی (towel)۔

فوظ: فَاظَ ـُ فَوْظًا و فَوَاظًا: مرنا۔ کہا جاتا ہے حَانَ فَوظُهٗ: اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔

فوع: فَاعَ ـُ فَوْعًا الحشراتُ: کیڑے مکوڑوں کا کثرت سے نکل آنا (عوام کی زبان میں)۔ تَفَوَّعَ المريضُ: بیمار کا قے کرنا (عوام کی زبان میں)۔ الفَوْعَة من الطيب: خوشبو کی مہک ـــ من السُّمّ: زہر کی تیزی ـــ من الشمّ: سونگھنے کی تیز حس ـــ من الشباب: جوانی کی ابتداء، آغاز جوانی۔

فوغ: افاغَ ـُ فَوْغًا الطيبُ: خوشبو بھر کرنا، مہکنا۔ الفَوْغَة من الطيب: خوشبو کی مہک۔ الفائِغَة: تیز خوشبو جو ناک کو بھر دے۔ الفَوَغ: منہ کی موٹائی۔ الأَفْوَغ: موٹے منہ والا۔ کہا جاتا ہے فَمٌ أَفْوَغ: موٹا منہ، بڑا منہ۔ رجُلٌ أَفْوَغ: بڑے منہ والا، موٹے منہ والا۔

فوف: افاف ـُ فَوْفًا: انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ناخنوں کو ملا کر سائل کو اشارہ کرنا کہ تجھے اتنا سا بھی نہ ملے گا، یعنی تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ الفُوف۔ واحد فُوفَة جمع أفواف: غلہ کے دانوں کے اوپر کا چھلکا ـــ والفُوف واحد فُوفَة جمع أفواف: جوانوں کے ناخنوں کی سفیدی، روئی کے ٹکڑے۔ کہا جاتا ہے: ما ذاقَ فُوفًا و ما أغنى فُوفًا: اس نے کچھ نہیں چکھا، اس نے ذرا فائدہ نہ دیا۔ ثوبُ أفوافٍ و ثوبٌ مُفَوَّف: باریک کپڑا، وہ کپڑا جس میں لمبے رخ سفید دھاریاں ہوں۔

۲ الفُوف و الفُوف واحد فُوفة و فُوفَة جمع أفواف: گائے بیل کا مثانہ، یمن کے دھاریدار کپڑوں کی ایک قسم۔

۳ الفُوفَل و الفُوفَل (ن): ایک خوشبودار پھل۔

○ فُوف: جھلی، پوست، جالا۔ فُوفَة: جھلی، پوست، جالا۔ ثوبٌ مُفَوَّف: سفید دھاریوں والا کپڑا۔

فوق: افاق ـُ فَوْقًا و فَواقًا الشيءَ: سے بلند ہونا ـــ اصحابَهٗ بالفضل او العلم: اپنے ہمعصروں سے فضیلت یا علم میں بڑھ جانا۔ فَوَّقَ هٗ على قومه: کو اپنی قوم پر فضیلت دینا۔ تَفَوَّقَ على قومه: اپنی قوم پر برتری دکھانا۔ الفائِق (ف) جمع فائِقُون و فَوَقَة: اپنی نوع میں عمدہ اور خالص۔ فَوق: اوپر (تحت کا اُلٹ) ظرف مکان ہے، کبھی زمانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اَقمتُ فوقَ شهرٍ: میں نے ایک مہینہ سے زیادہ قیام کیا، کبھی زیادتی اور فضل پر دلالت کرتا ہے جیسے العشرةُ فوقَ التسعة: (دس نو سے بڑا ہے)۔ هذا فوقَ ذلك: یہ اُس سے بہتر ہے، کبھی بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔ جیسے: اذا ذُكِرتَ فكلُّ فوقٍ دُونُ: (جب تمہارا ذکر کیا جائے تو ہر اونچائی نا کافی ہے)۔ الفَوقانی: التَّحْتانی کا اُلٹ، اوپر والا۔ الفِيقَةُ الضحى جمع فِيَق و فِيَق و فِيقات و أفواق و أفاوِيق: چاشت کی ابتداء، کہا جاتا ہے أرضَعَنِي أفاوِيقَ بِرِّهٖ: اس نے میرے ساتھ بہترین احسانات کئے۔ شاعِرٌ مُفِيق: اونچے درجے کا شاعر۔

۲ فاقَ ـُ فُواقًا: ہچکی آنا۔ فُواقًا و فُؤوقًا الرجلُ: کی جان نکلنے لگنا یا مرجانا۔ انْفَاقَ انفِياقًا الجملُ: اونٹ کا لاغر ہونا، ہلاک ہونا۔ الفُواق جمع أفوِقة و آفِقة و جج أفوِقات: جان کنی کے وقت کی ہچکی۔ (طب) نزع کا غرغرہ، عوام اسے الحازوقة کہتے ہیں۔

۳ فاقَ ـُ فَوقًا السهمَ: سوفار تیر کو توڑنا۔ الشيءَ: چیز کو توڑنا ـــ يَفاقُ و فَوِقَ يَفْوَقُ فاقًا و فوقًا و فَوَقًا السهمُ: سوفار میں کجی یا شکستگی پیدا ہونا۔ فَوَّقَ السهمَ: تیر میں سوفار لگانا۔ أفاقَ إفاقةً و أفوَقَ إفواقًا و أوْفَقَ ايفاقًا السهمَ: تیر پھینکنے کے لئے وتر قوس پر سوفار رکھنا۔ انفَاقَ انفِياقًا السهمُ: تیر کا سوفار ٹوٹ جانا۔ الفُوق جمع فُوَق و أفواق: سوفار، تیر کا دندانہ، دانتا۔ کہا جاتا ہے: لهٗ من كذا سهمٌ ذو فُوق: اس کے لئے اس میں پورا حصہ ہے۔ هو أعلاهم فُوقًا: وہ ان میں سب سے زیادہ حصے والا ہے۔ الفَوَق: سوفار کی کجی اور شکستگی۔ الفَواق (مص): کہا جاتا ہے له من كذا سهمٌ ذو فَواق: اس کے لئے اس میں پورا حصہ ہے۔ الفُوقَة: جمع فُوَق و فُقًا: تیر کا دندانہ، دانتا۔ الفائِق (ع ا): سر اور گردن کے جوڑ کی جگہ۔ السهمُ الأفْوَق: تیر جس کا سوفار ٹوٹ گیا ہو۔

۴ فَوَّقَ الفصيلَ: بچہ کو رُک رُک کر دودھ پلانا۔ افاقَ إفاقةً الحالبُ: دو دفعہ کے دودھ دوہنے کے بیچ میں ٹھہر جانا ـــ ت الناقةُ: اونٹنی کے تھن میں دودھ جمع ہونا صفت مُفِيق و مُفِيقَة جمع مَفاويق و فُيُق۔ تَفَوَّقَ الشرابَ: کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ـــ ت الناقةَ: اونٹنی کو ایک مرتبہ دوہنے کے بعد بچہ کو دودھ میں لگا کر دوبارہ دوہنا ـــ الفصيلُ: بچہ کا گھونٹ گھونٹ دودھ پینا ـــ مالَهٗ: مال کو ٹھہر ٹھہر کر خرچ کرنا۔ اِستَفاقَ الناقةَ: اونٹنی کو مہلت دے کر دوہنا۔ الفِيقَة جمع فِيَق و فِيَق و فِيقات و أفواق و أفاويق: وہ دودھ جو دو دفعہ دوہنے کے وقت درمیان تھن میں جمع ہو جائے۔ الأفاويق: وہ پانی جو بادل میں جمع ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا برسے۔ الفَواق و الفُواق (دونوں مصدر ہیں): دو دفعہ دوہنے کے درمیان کا وقت، دوہنے والے کے ہاتھ سے تھنوں کو دبانے اور ہاتھ کھولنے کے درمیان کا وقت، اور اسی سے ان کا قول ہے أمهِلْنِي قدرَ فواقِ حالبٍ: مجھے ذرا سی مہلت دو۔ طعامٌ مُفَوَّق: وہ کھانا جو تھوڑا تھوڑا لیا جائے۔

۵ افاقَ إفاقةً من مرضه: بیماری سے صحت یاب ہونا ـــ السكرانُ من سُكرِهٖ: مدہوش کا نشہ سے ہوش میں آنا ـــ من النوم: نیند سے بیدار ہونا۔ المجنونُ من جُنونه: دیوانگی کے بعد دیوانے کی عقل کا لوٹ آنا ـــ الزمانُ: زمانہ کا تنگی کے بعد فراخی لانا ـــ عنه النعاسُ: نیند کا اچٹ جانا ـــ من غفلته: چوکنا ہونا۔ اِستَفاقَ الرجلُ من نومه او مرضه او غفلته: نیند سے بیدار ہونا، مرض سے صحت یاب ہونا، غفلت سے ہوشیار ہونا۔ الفُواق: الإفاقَ کا اسم۔ اِستَفاقَ العليلُ: بیمار کا مرض سے صحت یاب ہونا، روبہ صحت ہونا۔

۶ افتاقَ الرجلُ: محتاج ہونا، فقیر ہونا۔ الفاقَة: صحراء ـــ الفاقةُ: حاجت، فقر، مفلسی، محتاجی۔

۷ الفاقَ: کھانے سے بھرا ہوا بڑا پیالہ، کنگھی۔ الفُوق: زبان کا کنارہ، پہلا راستہ، کہا جاتا ہے هذا ارتدّ على فُوقِهٖ: وہ گیا اور لوٹا نہیں۔ الفِيقَة جمع فِيَق و فِيَق و فِيقات و أفواق و أفاويق من الليل: رات کا اکثر حصہ۔

○ فاقَ ـُ فَوقًا و فَواقًا ہٖ/ہٗ: پر سبقت لیجانا، بازی لیجانا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

شرف رکھنا، سے اونچا ہونا، سے کہیں بلند ہونا۔ ہ: سے برتر ہونا، بڑھیا اور بہتر ہونا۔ ہ: سے ماوراء ہونا، بلندتر ہونا، اعلیٰ ہونا، سے زیادہ ہونا۔: زیادہ اہم ہونا، زیادہ وزنی ہونا، زیادہ بھاری ہونا۔ علی: کو یاد کرنا۔فَاقَ بنفسه فُؤُوقًا و فُوَاقًا: مرجانا، دم دے دینا۔فَوَّقَ ہ الی: (ہتھیار) کا رخ کی طرف کرنا۔ ہ إلی: کا رخ کی طرف پھیرنا۔ ہ: کو جگانا، بیدار کرنا، ہوش میں لانا، کو یاد دلانا۔ ہ: (سر سے) نشہ اتارنا۔أَفَاقَ من: سے صحت پانا، سے صحت یا طاقت بحال ہونا، سے افاقہ یابی کی حالت میں ہونا، روبہ صحت ہونا۔: دوبارہ صحت یاب ہونا، بیدار ہونا۔ ـ من النوم: نیند سے بیدار ہونا۔من: (نشہ، بیہوشی سے) ہوش میں آنا۔ ہ من: کو سے جگانا، بیدار کرنا، جوش میں لانا۔تَفَوَّقَ علی: سے برتر ہونا، سے بڑھ جانا، بازی لے جانا، پر سبقت لیجانا، سے سبقت لیجانا، سے بڑھنا، یا اونچا ہونا، سے کہیں بلند ہونا۔ ب: میں، کے ساتھ عمدہ کام کرنا، میں، کے ساتھ نمایاں مہارت کا مظاہرہ کرنا۔ فی: (کسی نصاب تعلیم میں) امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کرنا۔ إسْتَفَاقَ من: سے صحت یاب ہونا، روبہ صحت ہونا۔ ـ من النوم: نیند سے بیدار ہونا۔: بیدار ہونا۔ من: (بیہوشی، نشہ سے) ہوش میں آنا۔فَوقَ: (کے) اوپر، پر، کی چوٹی پر، سے ماوراء، سے زیادہ۔فَوقَ الحدِّ: لامحدود، بے حد، متناہی، حد سے زیادہ فزوں از حد، بہت زیادہ، مبالغہ آمیز، مبالغہ آمیزانہ۔فوقَ ذلك: مزید برآں، کے علاوہ، سے ماوراء۔فوقَ البنفسجی: ماورائے بنفشجی (ultra violet)۔فوقَ الطبیعة: خارق عادت، مافوق الفطرت (supernaltural)۔ فوق العادةِ: غیر معمولی؛ خصوصی یا ہنگامی (اجلاس وغیرہ)۔فوقَ أنَّه: اس حقیقت کے علاوہ کہ یہ۔ فَمَافوق: اور اس سے اوپر اور اس سے زیادہ۔مِن فَوقِه: اس پر، اس کے اوپر سے۔فَوقَانِي: اونچا۔ فَاقَة: غربت، احتیاج، ضرورت مندی، مفلسی، محتاجی۔ فُوَاق: ہچکیاں، دم واپسیں (موت کے وقت)۔أفَاوِيق (واحد فِيقَة): دوبار دوہنے کے درمیان تھن میں جمع ہونے والا دودھ۔ مجازاً: عطیے، تحفے، بخششیں، مہربانیاں، دان، خیراتیں۔أرْضَعَني افَاوِيقَ بِرّه: اس نے مجھ پر عنایات کی بوچھاڑ کی یا بھرمار کی۔ تَفَوَّق: برتری، زیادتی، اہمیت، تسلط، فوقیت، بالادستی، اوسط سے بڑھ کر کام، صلاحیت، ذہانت، طباعی، جوہر۔فَائِق: برتر، بہت عمدہ، انتہائی خوش نما، درجہ اول کا، نمایاں، غیر معمولی، جاذب توجہ، بہترین، ممتاز، حد سے متجاوز، بیدار، چوکنا، چوکس، ہوشیار۔مُفِيق: بیدار، جاگتا ہوا، چوکنا، چوکس ہوشیار۔مُتَفَوِّق: برتر، بہت عمدہ، اول درجے کا، انتہائی، نمایاں، غیر معمولی، جاذب توجہ، فاتح۔مُسْتَفِيق: بیدار، جاگتا ہوا، چوکنا، چوکس، ہوشیار۔

فول: الفُول (ن): لوبیا۔الفَوَّال: لوبیا بیچنے والا، لوبیا پکانے والا۔

فُول: (اسم جنس واحد فُولَة) جمع فُولَات: باقلی، لوبیا، پھلی۔فول مُدَمَّس: تیل میں پکائی ہوئی پھلیاں (مصر کا قومی کھانا)۔فُول سُودانی: مونگ پھلی، مونگ پھلیاں۔فَوَّال: لوبیا یا مونگ پھلی بیچنے والا۔

فوم: افَوَّمَ: روٹی پکانا۔الفُوم جمع فُومَان (ز): گیہوں، روٹی، ہر وہ غلہ جس کی روٹی پکائی جائے۔ الفُومَة جمع فُوَم: فوم کا واحد، خوشہ۔

۲۔الفُوم جمع فُومان (ن): لہسن، مٹر۔الفُومَة جمع فُوَم: چٹکی یعنی اتنی مقدار جو دو انگلیوں سے اٹھائی جائے۔ الفُومِي الأسْوَد: ایک سبزی۔الفامِيّ: سبزی فروش، کنجڑا۔

فونوغراف جمع فونوغرات: گراموفون (gramophone)۔

فون: الفَاوَانِيا او عودُ الصليب (ن): ایک پھولدار پودا۔

فوه: افَاهَ ـفَوْهًا بكذا: (کچھ) کہنا۔فَوِهَ ـفَوَهًا: فراخ دہن ہونا۔فَوَّهَهُ: کو فراخ دہن بنانا۔فَاوَهَ مُفَاوَهَةً و فَاهَى مُفَاهاةً فلانًا: سے گفتگو کرنا، فخریہ باتیں کرنا۔تَفَوَّهَ بكذا: کچھ کہنا۔ـ المكانَ: جگہ کی فراخی میں داخل ہونا۔تَفَاوَهَ القومُ بكذا: کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنا۔إسْتَفَاهَ اسْتِفَاهًا و اسْتِفَاهَةً: کسی کا کمی کے بعد کھانا پینا بڑھ جانا۔الفُوه و الفاه و الفيه جمع أفواه: منہ۔فُو: اسمائے خمسہ مکبرہ سے ہے۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں واؤ، حالت نصبی میں الف اور حالت جری میں یاء کے ساتھ آتا ہے، بشرطیکہ مفرد مکبر ہو اور یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو۔ چنانچہ اس کا استعمال بحسب عوامل مختلفہ فُوهُ و فاهُ و فِيهِ یعنی فَمُهُ و فَمَهُ و فَمِهِ ہے۔سقط لِفِيه: وہ منہ کے بل گر پڑا۔كَلَّمْتُه فاهُ إلى فِيَّ: میں نے اس سے روبرو گفتگو کی اس میں فاهُ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے متداول اردو ہے کہ رفع بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ پورے جملہ کو حال قرار دیا جائے اور كَلَّمْتُهُ فوهُ إلى فِيّ کہا جائے۔الفَوَه: منہ کی کشادگی، دانتوں کا لمبا ہونا اور ہونٹوں سے باہر نکلنا۔ الفُوَيه: فوہ کی تصغیر، چھوٹا منہ۔الفُوهَة جمع فُوهَات من الوادی و الطریق و جبل النار: وادی، راستہ یا آتش فشاں پہاڑ کا دہانہ۔الفَوْهَة: فاہ کا اسم مرہ، منہ۔الفُوَّهَة: گفتگو، غیبت۔ کہا جاتا ہے فلانٌ يخاف فُوَّهَةَ الناس: فلاں شخص لوگوں کی غیبت سے ڈرتا ہے۔انه لذو فُوَّهَةٍ: وہ سخت کلام اور تیز زبان ہے۔ان ردَّ الفُوَّهَةِ لشديد: منہ سے نکلی ہوئی بات لوٹانا دشوار ہے۔ جمع فُوَّهات و افْوَاه و فَوَائه: چیز کا اول۔ من الطریق و الوادی و جبل النار: راستہ، وادی اور آتش فشاں پہاڑ کا دہانہ۔ الفُوَّهَة التنفُّسِيّة: کیڑے مکوڑوں کے سانس لینے کے راستے۔الفَيِّه مؤنث فَيِّهَة: بہت بولنے والا، بلیغ، بہت کھانے والا آدمی و جانور۔الأفْوَه مؤنث فَوْهَاء جمع فُوه: چوڑے منہ والا۔طعنة فَوْهاء: نیزے کا چوڑا زخم۔المُفَوَّه: بڑا بولنے والا، بلیغ۔ کہا جاتا ہے خطيبٌ مُفَوَّهٌ: عمدہ خطبہ دینے والا۔

۲۔الفُوَّةُ و الفُوَّة (ن): باریک لمبی اور سرخ رنگ کے ایک درخت کی جڑیں جو رنگائی کے کام آتی ہیں اور بعض امراض کے علاج میں بھی مستعمل ہیں۔ اسے عروق الصباغین بھی کہا جاتا ہے۔الأفْوَاه جمع افَاوِيه واحد فُوه: مصالحے، خوشبو کی ڈبیاں، قسمیں۔المُفَوَّه: فوۃ سے رنگا ہوا۔شراب مُفَوَّهٌ: خوشبو ملی ہوئی شراب۔المُفَوَّى: فُوَّة سے رنگا ہوا۔

فوا: الفُو (ن): ایک گھاس جس سے مرض وجع الجنب اور داء الثعلب کا علاج کیا جاتا ہے۔الفُوَّة: اس کا ذکر فوہ میں آچکا ہے۔أرضٌ مُفْوَاةٌ: وہ زمین جس میں فُوَّة گھاس بہت ہو۔ فی: حرف جر اور معانی ذیل پر دلالت کرتا ہے۔ ظرفیت: جیسے الخمر في الزِق: شراب مشکیزے میں ہے۔ مصاحبت: جیسے جاء في القوم و قمتُ في شروق الشمس: وہ قوم کے ساتھ آیا اور میں سورج طلوع ہونے کے ساتھ اٹھا۔ تعلیل: جیسے قُتِلَ في ذَنْبِه: وہ اپنے جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ مقایسہ: جیسے علمي في بحره الاقطرة: میرا علم اس کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے۔ استعلاء: جیسے لأُصَلِّبَنَّكُمْ في جذوع النخل: میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، نیز باء إلی اور من کا مرادف اور ہم معنی بھی ہے: جیسے (بمعنی ب): انت بصير في عملك: تم اپنے کام سے واقف ہو۔ بمعنی الی): [illegible]

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

حبیبہ: اس نے اپنا ہاتھ دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ (بمعنی من): جیسے: مضت عليّ ثلاثة اشهر في ثلاث سنين: مجھ پر تین سال کے کوئی تین ماہ گذرے (یعنی بصير في عملك بصير بعملك. في جيبه إلى جيبه اور في ثلاث سنين: من نحو ثلاث سنين کے معنی میں ہے۔)

☆ في: میں، پر، (کے) نزدیک، (کے) پاس، (کے) اندر اندر، (کے) دوران، کے درمیان میں، (کے) ساتھ، (کی) معیت میں، (کے) ہمراہ، (کے) بارے میں، (کے) متعلق، (پر) مشتمل، کی خاطر، کی طرف سے، کی وجہ سے، کے مطابق، کے تناسب سے۔ هل لك في: کیا۔ پسند کریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ، کیا ایسا محسوس کرتے ہیں؟ خمسة في ثلاثة: پانچ بار تین، پانچ ضرب ۳۔ خمسة امتار في عشرة: پانچ میٹر ضرب ۱۰ میٹر (چوڑائی اور لمبائی)۔ كذب في كذب: جھوٹ پر جھوٹ۔ كلام في كلام: محض لفظ ہی لفظ، بیکار گفتگو۔ نحن اقارب في اقارب: ہمارے معاشرتی تعلقات عزیز رشتہ داروں کے سے ہیں۔ فيما مضى يا فيما مضى من الزمان: ماضی میں، پہلے زمانہ میں، پہلے۔ فيما يلي يا فيما بعد: ذیل میں، آئندہ حسب ذیل، بعد میں۔ فيما اعتقد: جیسا کہ میرا ایمان ہے، جیسا کہ میں پختہ یقین رکھتا ہوں۔ فيما بينهم: آپس میں، کے درمیان میں۔ تبسّم في خبث: وہ بد باطنی سے مسکرایا۔ فيما: کے دوران میں، حالانکہ، جب۔ فيما إذا: اگر، بشرطیکہ، آیا، اس صورت میں کہ

فیأ: ۱۔ فاء يفيء فيئًا: لوٹنا، واپس آنا، اسی سے آیت کریمہ ہے: حتى تفيء إلى امر الله: یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ ـــ الظلّ: سایہ کا ہٹ جانا۔ ـــ فيئًا و فيوءًا الامرَ: کسی بات یا امر کی طرف رجوع کرنا۔ فيّأ تفيئةً الشجرُ: درخت کا سایہ دار ہونا۔ ـــ ت الرياحُ الغصونَ: ہوا کا ٹہنیوں کو ہلانا۔ أفاء إفاءةً الظلَّ: سایہ کا لوٹنا۔ ـــ ہ الى كذا: کو کے پاس کی طرف لوٹانا۔ تفيّأ تفيُّؤًا الظلُّ: سایہ کا پلٹنا۔ ـــ الشجرةَ و في الشجرة: درخت سے سایہ حاصل کرنا۔ ـــ فلانٌ: سایہ تلاش کرنا۔ کہا جاتا ہے: تفيّأ بفيئه: کی پناہ لینا۔ استفاء استفاءةً: لوٹنا، واپس آنا۔ الفيء (مص) جمع افياء و فيوء: سایہ، پرندوں کی ایک ٹکڑی۔ الفيئة: اسم مرہ، رجوع، واپسی، لوٹنا۔ الفيئة: نوع، قسم۔ کہا جاتا ہے: انه حسن الفيئة: وہ بہتر واپسی والا ہے۔ التفيئة (مص): کہا جاتا ہے: دخل على تفيئة فلان: وہ فلاں کے نقش قدم پر داخل ہوا۔ المُفاء: أفاء سے اسم مفعول۔ المَفْيأة و المَفْيُوءة: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ آئے، سایہ دار جگہ۔

۲۔ فاء ـــ فيئًا الغنيمة: مال غنیمت کو لینا، اور غنیمت قرار دینا۔ أفاء إفاءةً على القوم فيئًا: ایک قوم کا مال لے کر دوسروں کو بطور غنیمت دینا۔ ـــ الله عليه مال القوم: اللہ کا کسی کو قوم کا مال غنیمتاً دلانا۔ تفيّأ تفيّؤًا الاخبار: خبروں کے متعلق پوچھنا، خبریں حاصل کرنا۔ استفاء استفاءةً المال: کو بطور مال غنیمت لینا۔ ـــ الاخبار: خبروں کے متعلق پوچھنا، خبریں حاصل کرنا۔ الفيء جمع افياء و فيوء: غنیمت، خراج۔

۳۔ الفينة: وقت۔

☆ فاء ـــ فيئًا: واپس آنا، (سائے) کا مغرب سے مشرق کو منتقل ہونا۔ فيّأ: درخت کا سایہ مہیا کرنا، گھنا ہونا، سایہ دار ہونا۔ أفاء على ہ: کو کچھ بطور مال غنیمت دینا، کو انعام دینا، کو کچھ عطا کرنا۔ تفيّأ ہ/في: کے ساتھ اپنے آپ پر سایہ کرنا، کے نیچے سایہ تلاش کرنا۔ فيء جمع افياء و فيوء: (بعداز دوپہر کا) سایہ۔ فيتامين جمع فيتامينات: وٹامن (vitamin)۔ فيتنام: ویتنام (Vietnam) (ایک ملک کا نام)۔ فيتو: veto ویٹو۔ حق الفيتو: ویٹو کرنے کا حق (veto power)۔ فيتون: فٹن (phaeton) (چار پہیوں والی گاڑی)

فیج: ۱۔ افاج في عَدْوِه: دوڑنے میں دیر کرنا۔ ـــ القومُ في الارض: ملک میں جا کر پھیل جانا۔ الفَيْج جمع فُيُوج: ایلچی، ہرکارہ، خادم (یہ لفظ فارسی پیک سے معرب ہے)؛ لوگوں کی جماعت۔

۲۔ الفَيْج جمع فُيُوج: پست زمین۔ الفائجة جمع فوائج: دو پہاڑوں کے درمیان وادی۔

۳۔ الفيجيتالين: بناسپتی تیل جو پکانے اور تلنے میں گھی اور تیل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے (لاطینی زبان کا لفظ)

فیح: ۱۔ فاح ـ فيحًا و فيحانًا الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا۔ ـــ ت القِدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ افاح القِدْرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔

۲۔ فاح ـ فيحًا: کشادہ ہونا۔ ـــ ت الغارةُ: غارت کا وسیع ہونا، منتشر ہونا۔ ـــ فيحًا و فيوحًا الدمُ: خون گرنا، بہنا۔ ـــ ت الشجّةُ: زخم کا بہت مقدار میں خون بہانا، زخم سے بہت خون بہنا۔ ـــ الشيءَ: کا ڈھکنا اٹھانا (عوام کی زبان میں)۔ ـــ الربيعُ: موسم بہار کا سرسبز ہونا۔ ـ يفاحُ فَيَحًا: کشادہ ہونا۔ ـــ ت الغارةُ: غارت کا وسیع اور منتشر ہونا۔ فيّح الشيءَ: کو کثرت اور وسعت کے ساتھ تقسیم کرنا۔ اسی سے ہے: لو ملكتُ الدنيا لَفَيَّحْتُها في يوم واحد: اگر میں دنیا کا مالک ہوتا تو ایک ہی دن میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ افاح الدماءَ: خون بہانا۔ الفَيْح و الفَيَح: کشادگی۔ فَياحِ: غارت کا اسم۔ کہا جاتا ہے: فيحي فَياحِ: اے غارت پھیل جا۔ غارة: لوٹ ڈالنے والے گھوڑے۔ الفَيّاح م فَيّاحة: اسم مبالغہ ہے۔ فیاض۔ بحر فَيّاحٌ: بہت وسیع سمندر۔ رجلٌ فَيّاحٌ: فیاض مرد، بڑا سخی مرد۔ الأفْيَح م فَيْحاء جمع فِيح: کشادہ، وسیع۔ الفَيْحاء: وسیع مکان، بصرہ، دمشق اور طرابلس کا لقب۔

☆ أفيح مونث فيحاء: معطر، خوشبودار، وسیع، بہت بڑا، دور تک پھیلا ہوا۔ الفيحاء: دمشق کا لقب۔ فَيّاح: بہت خوشبودار، بہت معطر، تیز بو والا۔

فیخ: فاخ ـ فيخًا و فيخانًا: دیکھو فاخ يفوخ۔ (واوی) کیونکہ یہ فاخ یفوخ کے معنی میں ہے۔

فید: ۱۔ فاد ـ فيدًا: مرنا۔ ـــ المالُ له: کا مال جاتا رہنا۔ افاد إفادةً الرجلَ: کو مار ڈالنا۔ ـــ الجزورَ: بکری یا اونٹ ذبح کرنا۔

۲۔ فاد ـ فيدًا المالُ له: کو مال حاصل ہونا، میسر آنا۔ ـــ ت له فائدةٌ: کو فائدہ حاصل ہونا۔ افاد إفادةً الرجلَ علمًا او مالًا: کو علم یا مال دینا۔ ـــ منه علمًا او مالًا: سے علم یا مال لینا، سے علم یا مال کا اکتساب کرنا۔ تفايد القومُ بالمال: ہر ایک کا ایک دوسرے کو مالی فائدہ پہنچانا۔ استفاد منه علمًا او مالًا: سے علم یا مال لینا، سے علم یا مال کا اکتساب کرنا۔ الفائدة جمع فوائد: وہ زیادتی جو انسان کو حاصل ہو، مال یا علم جو انسان حاصل کرے یا اکتساب کرے۔ (ت): سود۔ الفائدة البسيطة: سادہ سود۔ الفائدة المركّبة: سود مرکب۔

۳۔ فاد ـ فيدًا و فيّد و تفيّد الرجلُ: ناز سے چلنا۔ الفَيّاد و الفَيّادة: ناز سے چلنے والا۔ کہا جاتا ہے: هو يمشي على الارض فَيَدًا مَيّادًا: وہ زمین پر ناز سے اکڑتا ہوا چلتا ہے۔

۴۔ فيّد: اُلّو کی آواز سے بد فالی لینا۔ الفَيّاد (ح) نر اُلّو۔

۵۔ الفيد: زعفران کی پتی۔

☆ افادہ: کو فائدہ پہنچانا، کی مدد کرنا، کو فائدہ، مدد یا کام دینا، کے لئے مفید اور ممد ہونا، کو فائدے پہنچانا۔ ـــ ہ: کو کچھ سکھانا۔ ـــ ہ/ب: کو کی اطلاع دینا، کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

صلاح دینا، کو سے واقف کرنا، آگاہ کرنا، مطلع کرنا، کو
کی اطلاع دینا، کو کے متعلق بتانا۔ – ہ/ب: کی پولیس
کو اطلاع دینا، کی پولیس کو رپورٹ کرنا۔ – ان یابان:
کہ) — ہ: کو حاصل کرنا، جیتنا، اکتساب کرنا۔ —
— سے فائدہ، نفع حاصل کرنا، سے فائدہ اٹھانا، کو
فائدہ یا حساب میں منتقل کرنا۔ (گرامر میں) مکمل معنی
دینا۔ اِستفاد ہ کو اکتساب کرنا، حاصل کرنا، جیتنا؛
کے متعلق جاننا، بتایا جانا، مطلع ہونا۔ — من/ب سے
فائدہ، نفع اٹھانا، سے مستفید ہونا، کو حساب یا فائدہ میں
منتقل کرنا، کو برتنا، استعمال کرنا، استعمال میں لانا، کا
مصرف ڈھونڈنا، کو منفعت بخش استعمال میں منتقل کرنا۔
— من سے نتیجہ اخذ کرنا، کو لگنا، خیال کرنا، سمجھنا۔
فیِّد زیادہ فائدہ مند، زیادہ کارآمد، زیادہ نفع بخش۔
فائدہ افادیت، مفید ہونا، فائدہ، نفع، منفعت، جمع
فوائد نوٹس، اطلاع، مکتوب، مراسلہ، پیغام،
شہادت، تصدیقی بیان، حلفی بیان (عدالت میں)۔
افادۃ الاستلام: وصولی کی رسید
acknowledgment of receipt
استفادہ استعمال، استفادہ۔ فائدہ افادیت،
فائدہ، مدد، کام، نفع، منفعت، سود (روپیہ پر)، مفید
سبق، نتیجہ۔ مُفید مفید، کارآمد، سودمند، موافق،
مناسب حال، منفعت بخش، معلومات افزا۔ مُفاد
مضمون، مافیہ، محتویات جوہر، لبِ لباب، خلاصہ، معنی،
مفہوم، منشا (کسی مضمون کا)۔ اشاعۃ مفادھا ان:
افواہ کہ، بدیں معنی کہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ۔
فِیدرالی (federalistic) وفاقی۔ دولۃ
فیدرالیۃ: وفاقی ریاست۔
فیر الفَیرُوز و الفیرُوز و الفَیرُوزج و الفِیرُوزج:
ایک قسم کا قیمتی پتھر، فیروزہ۔
فیرُوس جمع فیروسات: کسی متعدی مرض کا زہر
(virus)۔ فِیزا: ویزہ (visa)۔ فیزیاء
طبیعیات (physics)۔ فِیزیائی: طبیعیاتی
(physical)۔ فِیسیُولُوجیا عضویات، علم اعضاء
(physiology)۔ فِیش جمع فیشات:
(برقی) پلگ (electric plug)۔
فیش ۱۔ فاش – فیشًا: فخر کرنا، تکبر کرنا، صفت:
فائش۔ فایَشَ فِیاشًا و مُفایشۃً ہ: سے مفاخرت
کرنا۔ – الرجل: لڑائی میں ڈینگ مارنا، کھوکھلی دھمکی
دینا۔ تفیّش الامر: کا لغو دعویٰ کرنا۔ تفایش القوم:
ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ الفَیّاش: بہت فضیلت والا
سردار، فخر کرنے والا۔ الفیُوش: فخر کرنے والا۔

۲۔ فیّش عن الامر (میں) بزدلی کرنا، پیچھے ہٹنا۔ تفیّش
عنہ: سے عاجزی اور کمزوری سے پلٹ جانا۔ الفیُوش:
کمزور، بزدل۔
۳۔ الفائش عند العامۃ: سطحِ آب وغیرہ پر تیرتا ہوا،
گہرے کا اُلٹ یعنی سطحی، اس کا فعل عوام کے نزدیک
واوی ہے۔ کہتے ہیں: فاش یفوش۔
۴۔ الفاشِستی: فسطائی، فاشی (fascist)۔
فیّاش: شیخی خورہ، مغرور، شان یا مہارت دکھانے والا
فیص: فاص – فیصًا فی الارض: زمین یا ملک میں
جانا۔ – ہٗ: سے بچ نکلنا۔ – منہ: سے ہٹ جانا۔ کہا
جاتا ہے: مافصتُ افعل: میں کر رہا ہوں۔ افاص
الکلام: کو ظاہر کرنا۔ – ت یدہٗ: انگلیوں کا کسی چیز
کے پکڑنے سے عاجز رہنا۔ کہا جاتا ہے: مالک عنہ
محیص: تمہارے لئے اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔
فیض ۱۔ فاض – فیضًا و فیضانًا و فُیُوضًا و فیوضًا
و فُیُوضۃً و فَیضُوضۃً السیل: سیلاب کا بہت
ہونا اور وادی کے کنارہ سے بہنا۔ — کل سائل: ہر
مائع کا بہنا۔ کہا جاتا ہے: فاضت عینُہٗ: آنکھ سے آنسو
بہہ پڑے۔ – الشیءُ: بہت ہونا۔ – الخبرُ: خبر کا
پھیل جانا۔ — فیضًا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ —
صدرُہٗ بالسِّرّ: بھید کو چھپا نہ سکنا، راز فاش کر دینا۔
اَفاض اِفاضۃَ الدمع: آنسو بہانا۔ — الماءَ: پانی
گرانا۔ — الاناءَ: برتن کو لبریز کرنا۔ — القوم من
المکان: لوگوں کا جگہ سے نکل کر متفرق و منتشر ہو جانا۔
– القومُ فی الحدیث: گفتگو میں مشغول ہو جانا۔
– القومُ علی الرجل: پر غالب ہو جانا۔ – بالشیءِ:
چیز کو پھینک دینا۔ کہا جاتا ہے: ما افاض بکلمۃ:
اس نے ایک لفظ نہیں کہا، وہ کچھ نہیں بولا۔ تَفیّض
الجفنُ: (آنکھ کا) آنسو بہانا۔ اِستَفاض
اِستِفاضۃَ الخبرُ: خبر کا پھیل جانا۔ — الرجُلَ:
سے پانی بہانے کو کہنا۔ — المکانُ: جگہ کا کشادہ
ہونا۔ — القِداحَ بالقداح: تیر سے جوا کھیلنا۔ —
القومُ فی الحدیث: لوگوں کا باتیں شروع کر دینا۔
— الوادی شجرًا: وادی کا کشادہ اور بہت درختوں
والی ہونا۔ درعٌ فاضۃ کشادہ زرہ۔ الفَیض جمع
فُیُوض و افیاض: بہت۔ کہا جاتا ہے: ماءٌ فیضٌ:
بہت پانی۔ اُعطاہُ غیضًا من فیضٍ: اس نے بہت
میں سے اُسے تھوڑا سا دیا۔ — فیضٌ: بہت
سخاوت کرنے والا۔ — من الخیل: بہت تیز گھوڑا۔
ارضٌ ذاتُ فیوض: بہتے پانی والی زمین۔ الفیّاض:
بہت پانی والا

والا دریا۔ رجلٌ فیّاضٌ: بہت بخشش کرنے والا۔
حدیثٌ مُفاضٌ و مُستَفِیضٌ و مُستَفاضٌ فیہ:
پھیلی ہوئی بات۔ درعٌ مُفاضۃٌ: کشادہ زرہ۔
۲۔ فاضَ – فیضًا و فُیوضًا: مرجانا۔ – ت نفسُہٗ:
اس کی جان نکل گئی۔ الفَیض (مص): موت۔ کہا
جاتا ہے: ذھبنا فی فیض فلان: ہم فلاں کے جنازے
میں گئے۔
ج فاضَ – فیضًا و فیضانًا: چھلکنا، کناروں سے باہر
آنا۔ – علی: کو غرقاب کرنا، زیرِ آب کرنا۔ –: بہنا،
جاری ہونا، نکلنا، بہت ہونا، وافر ہونا، کثرت سے ہونا،
افراط سے ہونا۔ – فیضًا: (خبروں کا) پھیلنا۔ (فیض
و فیوض مصدر کے ساتھ) فاضت روحُہ او نفسُہ:
اس کی جان نکل گئی، وہ مر گیا۔ اَفاض: بہنا۔ – ہ: کو
لبالب بھرنا، کو اتنا بھرنا کہ وہ چھلکنے لگے یا کناروں
سے بہہ نکلے۔ — ہ علی: کو پر انڈیلنا۔ — ہ:
(آنسو) بہانا۔ — فی: اپنی بات یا تقریر میں پرگو یا یا
لفاظی سے پُر ہونا، بڑے دم والا ہونا، طوالت پسند ہونا،
کے پیچھے کسی پابندی کے بغیر اندھا ہو جانا یا کا ہو رہنا۔
– ب: کے بارے میں تفصیل سے رپورٹ کرنا یا گفتگو
کرنا، پر تفصیل سے لکھنا یا بولنا۔ — علی ب: سے
کوئی چیز وغیرہ تفصیل سے بیان کرنا۔ — ب: (لفظ)
کا وضاحت سے تلفظ کرنا۔ اِستَفاض علی: پر انڈیلنا،
پھیلانا، کو غرقاب کرنا۔ –: (خبر) کا پھیلنا، بہت ہونا،
کی بہتات ہونا، بہت زیادہ ہونا، مفصل ہونا، جامع اور
مکمل ہونا۔ فیض: سیلاب، طوفان، طغیانی، افراط، بہتات
فراوانی جمع فیوض: چشمہ۔ فیّاض: چھلکتا ہوا،
کناروں سے بہنے والا، بہت، پرجوش، لبریز، مالا مال،
مفصل، جامع (تقریر وغیرہ) بہت فیاض، سخی۔
فیّاض الخاطر: ذہین، فطین، طباع، خیالات سے
بھرا ہوا۔ فَیضان: طغیانی، سیلاب۔ مَفِیض: باہر
نکلنے کا راستہ، نکاس، موری، نالی۔ لیس لنا منہ
مفیض: ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ لایجد مفیضًا
من: یقینًا اسے کرنا ہو گا۔ لایجد مفیضًا الی
الکلام: وہ آزادی سے بات کرنے کا موقع نہیں پا
سکتا۔ اِفاضۃ: جامعیت، تفصیل۔ اِستفاضۃ:
بہتات، کثرت، افراط، فراوانی، وفور۔ فائِض:
بہت، بافراط، کثیر، وافر، زائد جمع فوائِض: (روپیہ
پر) سود۔ مُستفِیض: مفصل، تفصیلی، جامع۔
فیظ فاظ – فیظًا و فیظانًا و فُیُوظًا و فَیظُوظۃً: مر
جانا۔ اَفاظَہُ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو موت دینا۔ کہا
جاتا ہے: ضربتُہٗ حتی اَفظتُ نفسَہٗ: میں نے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اس کو مار کر قتل کر دیا۔ الـفَيْـظُ (مـص): موت۔ کہا جاتا ہے جَـانَ فَيظُـهُ: اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔

◌ فائِظ: بھاری سود، سودخواری۔ فـايِظجی: سودخوار، سودخور۔

فيف: الفَيْف جـمـع اَفْيَـاف و فُيُوف: وہ جنگل جس میں پانی نہ ہو، ہموار جگہ۔ ـــــ من الارض: مختلف ہواؤں والی زمین۔ الفَيْفَاء جمع فَيافٍ: چکنا پتھر۔ ـــ و الفيفاة و الفَيفَى جمع فياف: وہ جنگل جس میں پانی نہ ہو، ہموار جگہ۔

◌ فَـيْـفَاء جمع فَيافٍ: ریگستان، بیابان۔ فِيكَونت: والی کاؤنٹ (viscount)۔

فيق: فَاقَ فَـيْـقًا: جان دینا۔ اَفْيَـقَ افـيـاقًا الشاعرُ: عجیب کلام کہنا۔ الفَيق (مص): مرغیوں کی آواز۔

فيل: ـ فَالَ رَأيُهُ ـ فَيلةً و فُـيُـولَةً و فَيْلُولَةً رأيُهُ: غلط اور کمزور رائے والا ہونا۔ صفت فَـائِل الرأی و فَالُهُ و فِيلُـهُ و فَيلُهُ (ضعيف الرای)۔ فَيَّلَ رَأيَه: کی رائے کو غلط اور برا کہنا۔ ـــ الرجُلُ فی رأيه: صحیح رائے قائم نہ کرنا۔ تَـفَيَّـلَ رَأيُـهُ: کی رائے کا کمزور ہونا۔ فَالَ الـرأی وفائِلُهُ و فِيلُه: ضعيف الرای۔ الـفَيْلَة مص: عوام کہتے ہیں اَتَتـنـى فَيْـلَةٌ على فلان: مجھے موقعہ ملا کہ فلاں شخص سے اپنی ضرورت پوری کروں۔ فَيِّـلُ الـرأی جـمـع اَفْـيَـال: کمزور رائے والا۔ الفَيـالة: رائے کی کمزوری۔

۲۔ فَالَ ـ فَيْـلةً و فَيـولةً و فَيْلُولةً الرجُلُ: ہاتھی جیسا بڑا ہونا۔ تَـفَيَّـلَ الـرجُلُ: موٹا ہونا۔ الفِيل (ح) جـمـع اَفْـيَـال و فِيَلَة و فُيُول م فِيلَة: ہاتھی، مرد فرومایہ۔ داءُ الـفيل (طب): ایک بیماری جس سے پاؤں سوج جاتا ہے۔ اس کو فیل پا کہتے ہیں۔ الـفَيَّال جـمـع فيَّالة: ہاتھی کا محافظ، مہاوت ہاتھی والا۔ فَيِّلُ اللحم جمع اَفْيَال: بہت گوشت والا۔ المَفْيُولَاء (ح): ہاتھی کے بچے۔

۳۔ تَـفَيَّلَ النباتُ: نباتات کا بڑھنا۔ الشبابُ: جوانی کا ڈھلنا۔

۴۔ الفال: الفَأل کا مخفف۔

۵۔ الفِيلَجَة جمع فَيَالِج (جسے الصُّلَّجة بھی کہتے ہیں) ریشم کے کیڑے کا کویا۔ عوام لوگ اسے الشرنقة کہتے ہیں۔

۶۔ الفَيلَق جمع فَيَالِق: بڑا لشکر، بڑا آدمی۔

۷۔ الـفَيْلَم جمع فَيالِم: بزدل، چوڑے منہ کا کنواں، کنگھی، دسترخوان کے نیچے بچھانے کا چمڑا، تلچھٹ کی کثرت۔ ـ و الفيلماني: بڑا قد آور آدمی۔

۸۔ الفِيلِرِيَة (ن): ایک درخت جس کے پتے بیضوی شکل کے اور قدرے خاردار ہوتے ہیں پھل چھوٹے چھوٹے انگوروں جیسے، آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔

◌ فَـالَ ـ فُيُولةً و فَيـلُـولةً: رائے کا غلط ہونا۔ فِيـل جـمـع فِيَلَة و فُيُول و اَفْيَال: ہاتھی، شطرنج کا رخ یا فیل (bishop)۔ سِـنُّ الـفيـل: ہاتھی دانت۔ فِيلا: جمع فيلات: کوٹھی، ویدانُ الفيلاريا: فلاریا (filaria)۔ الـفِيلِبين: فلپائن ایک ملک (the Philipines)۔ فَيلَـح و فَيْلَجَة جمع فَيَالِج: (ریشم کے کیڑے کا) کویا (cocoon of the silkworm)۔ فَيْلَسُـوف جـمـع فـلاسـفـه: فلسفی۔ فَيـلق جمع فَيالِق: فوج کا ایک بڑا یونٹ، کور (ڈویژن فوج)۔ فِيـلـم: فلم (film) جو پردۂ سیمین پر دکھائی جاتی ہے۔ فِيـلـولـوجـيـا: لسانیات (philology)۔ فِيما و فِيمَ: کیوں؟ کس لئے؟

فين: فان ـ فَيْـنـاً: آنا۔ الفَيْنَة: لمحہ، (زمانہ، وقت۔ کہا جاتا ہے اَلـقـاه الـفَيـنـةَ بـعدَ الفَيْنَةِ او فَيـنَةً بعد فَينةٍ: میں اسے وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہوں)۔ ـــــ عند العامة: بزدلی۔ عوام کہتے ہیں: فَانَ فهو فائِن: اس نے بزدلی کی، لہٰذا فائن بمعنی بزدل ہے۔ فَيَّـنَهُـمْ فـلانٌ: فلاں شخص ان کی بزدلی کو منظر عام پر لے آیا۔ الفَيـنَان م فَيْنَانَة: خوبصورت لمبے بالوں والا۔

◌ فَيْنَة جـمـع فَيْـنـات: وقت، لمحہ، آن، گھڑی، لحظہ۔ الـفَيْـنـةَ بـعـد الـفَيْنَةِ، الفيـنة بعد الاخرى، بين الـفيـنـة والـفيـنةِ اور فی الفَيْنَةِ بعد الفينة: وقتاً فوقتاً، کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ فِينا: وی آنا (ملک کا نام) (Vienne)۔ فِيـنـوس: زہرہ (Venus)۔ فينيسيا: Venice وینس (ایک شہر کا نام)۔ فينيقی: فونیشیا کا باشندہ (جمع فينيقيون): فونیشیائی تہذیب ادب وغیرہ۔

فيه: تَفَيْهَقَ فی الكلام: بہت پھیلا کر گفتگو کرنا۔ ـ فی مشيته: ناز سے چلنا۔ ـ عليه بكذا: سے پر بڑا بننا۔ الفَيْهَق جمع فَيَاهِق: ہر کشادہ چیز۔

◌ تَـفَيْهَـقَ: طوالی ہونا، اکتا دینے والی حد تک طویل ہونا، تفصیلی ہونا، مفصل ہونا۔ فَيْهَـقَـة: بہت طوالی ہونا، اکتا دینے والی حد تک طوالت۔ الـفَيُّوم: شمالی مصر کا ایک قصبہ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ق

ق تلفظ القاف حروف تہجی میں ۲۱واں حرف اور ابجد میں ۱۰۰ کے برابر ہے۔

ٯ ق: دقیقہ (منٹ) کا مخفف۔

قاب: قَأَبَ ـَ قَأْبًا الطعامَ: کھانا کھانا۔ الماء: پانی پینا۔ قَئِبَ ـَ قَأَبًا وقَأَبًا ـ من الشراب: کو زیادہ پینا۔ اَلْقَوْأَبُ والقَوْأَبِیُّ من الآنیة: بہت پانی لینے والا برتن۔ القَؤُوبُ والمِقْأَبُ: بہت پینے والا۔

قَاقَ: القَاقَاءُ: کوے کی کائیں کائیں۔ القِنْقِئُ: انڈے کی سفیدی، انڈے کا باریک چھلکا۔

قأى: قَأَى ـَ قَأْيًا الرجُلُ: حق خصم کا اقرار کرنا، دشمن کا مطیع ہونا۔

○قادِس: جنوب غربی ہسپانیہ کی ایک بندرگاہ قادُوس جمع قوادیس: پن پہیہ کا ڈول، کفچہ۔

قازُوزَة: سوڈا واٹر

قاشانی: چینی کے برتن، برتن بنانے والی چینی۔

قاف: حرف ق۔ جبل القاف: کوہ قاف۔ قَاقُلَّة: الائچی۔

قَاقُلّی ایک خاردار جھاڑ بوٹی جس کے پتے سوڈا ایش بنانے کے کام آتے ہیں۔ قَاقُم: گلہری کی قسم کا ایک پوستین والا جانور، قاقُم: اس جانور کی پوستین کا کپڑا۔

قالِب جمع قَوَالِب: شکل، صورت، سانچہ، قالب، کیک پان، نمونہ، مقام نشو ونما، جوتے کا کالبد، قالبُ جُبن: پنیر کی قاش پھانک یا ڈلا۔ قالبُ سُکَّر: چینی کا ڈلا، مصری کا ڈلا، قالبُ صابُون: صابن کی ٹکیہ یا سلاخ۔ قَلْبًا و قَالِبًا: دل وجان سے، دلی طور پر یا ظاہری طور پر۔ قالُوش جمع قالوشات (فرانسیسی لفظ): برساتی بوٹ، بالائی بوٹ۔

قامُوس جمع قوامیس: بڑا سمندر، ڈکشنری، لغات۔

قان: احمر قانٍ: گہرا سرخ، خون جیسا سرخ۔ قانی: گہرا سرخ، خون جیسا سرخ۔

قانون جمع قوانین: عام قاعدہ، قانون، مستقل اصول، بنیادی ضابطہ، مسلمہ بات، بدیہی حقیقت، معیار، مکمل مثال، خاص یا ہنگامی قانون، حکم، فرمان، مجموعہ قوانین، محصول، خراج، ٹیکس، کھجوروں اور زیتون کے درختوں پر (تیونس میں عائد کردہ) ٹیکس، ایک چھ تار آلہ طرب القانون الاساسی: بنیادی آئین مجموعہ قوانین، تحریری قوانین، قانون التأسیس: آئین، تحریری قوانین۔ القانون الجنائِی: تعزیری قانون، فوجداری قانون۔ قانونُ الاحوالِ الشخصیة: نجی تحریری قانون، القانون الدستوری: آئینی قانون۔ القانون الدُوَلِی: بین الاقوامی قانون۔ قانون المُرافَعَات: طریق کار کے متعلق ضابطہ قانون۔ قانونُ اصولِ المحاکمات الحقوقیة: بمعنی بالا۔ قانونُ السِلكِ الاداری: انتظامی قانون قانونٌ کِیماوِیٌ: کیمیاوی ترکیب (فارمولا)۔ القانونُ المَدَنی: سول لاء۔ دیوانی قانون۔ قانونی: شرعی، دینی، مذہبی، قانونی، قانون کے مطابق، جائز، قانون کی نظر میں، قانونًا اور شرعًا جائز، باضابطہ، صحیح النسب، جائز عقد سے، حلال، باقاعدہ، ماہر قانون، قانون دان، صیدلی قانونی: لائسنس یافتہ مصدقہ دواساز۔ غیرُ قانونی: غیر قانونی، ناجائز، قانُونِیَة: ضابطہ سے مطابقت، قانون سے مطابقت۔ قاوِرْمَة: چھوٹے یا بڑے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جنہیں پیاز، ٹماٹر یا سکوائش کے ساتھ دم پخت کیا گیا ہو۔ قاوُق و قاوُوق جمع قواویق: نمدے کی اونچی ٹوپی قاوُون: خربوزہ۔

قایِش جمع قَوَایِش: چمڑے کا تسمہ، فیتہ، پٹی، پیٹی، تنگ، استرا لگانے کا پٹہ۔

قَبّ: ۱۔ قَبَّ ـُ قَبًّا النباتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ قَبَّ ـِ قُبُوبًا اللحمُ وغیرہ: گوشت وغیرہ خشک ہونا اور اس کی تازگی ختم ہونا۔ ـَ قَبًّا الخصرُ او البطنُ: کمر کا باریک یا پیٹ کا دبلا ہونا۔ قَبِبَ یَقَبُّ قَبَبًا الخصرُ او البطنُ: کمر کا باریک یا پیٹ کا دبلا ہونا۔ قَبَّبَ التمرُ: کھجور کا خشک ہونا۔ القَابُّ (فا) ـ القَابَّةُ: القاب کا مونث۔ القَبَبُ (مص): کمر کا باریک ہونا، پیٹ کا پتلا ہونا۔ الاَقَبُّ من الخیل مونث قَبَّاء'' ج قُبٌّ: باریک کمر، پتلے پیٹ والا گھوڑا۔ القُبِّیُّ: لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے دبلے پیٹ والا۔ القَبِیبُ: خشک نباتات کا نام۔ المُقَبَّبُ والمَقْبُوبُ: دبلا۔

۲۔ قَبَّ ـِ قَبًّا الشیئَ: کی اطراف کو جمع کرنا۔ القُبَّةَ: گنبد بنانا۔ عوام کہتے ہیں: قَبَّ القَومُ: لوگ اٹھے اور چلے گئے اور کہا جاتا ہے۔ قَبَّ الشَّیئُ: چیز بلند ہو گئی۔ قَبَّبَ الرجُلُ: گنبد بنانا۔ ـــ الشیئَ: کے اطراف کو جمع کرنا۔ ـــ البیتَ: گھر کو گنبد دار بنانا۔ تَقَبَّبَ القبةَ: گنبد میں داخل ہونا۔ قَبُّ المیزان: عوام الناس کے نزدیک ترازو کی ڈنڈی۔ القُبَّةُ ج قِبَاب'' وقُبَب'' (ب): گنبد۔ القبةُ الخضراءُ والزرقاءُ: گنبد آسمان۔ القُبَّةُ الکرویة (ھ) قبہ کی سطحوں کے درمیان میں ایک متوازی سیدھا خط جو دونوں سطحوں کو مساوی تقسیم کرے۔ (ھ) کرہ کے دونوں اطراف کے درمیان میں ایک سیدھا قطع کرنے والا خط۔ قبةُ الاسلام: بصرہ (شہرہ کا نام)

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

قبة الشهادة عند اليهود ایک خیمہ تھا جس میں یہود تابوت عہد کو چھپاتے تھے۔ اور اس کو قبة الزمان بھی کہتے تھے۔ القُبَابُ من الانوف موٹی ناک۔

۳۔ قَبَّ ـُ قَبًّا يدَفلانٍ کا ہاتھ کاٹنا۔ اِقْتَبَّ يدَهٗ کا ہاتھ کاٹنا۔ القَابُّ من السيوف و نحوها شمشیر براں، وغیرہ

۴۔ قَبَّ ـِ قَبُوْبًا القومُ جھگڑے میں آواز بلند کرنا۔۔ قَبًّا و قَبِيْبًا الاسدُ والفحلُ دانت پیسنا۔ القَبُّ (مص) جوان گھوڑا وغیرہ۔ القَابَّةُ بادل کی گرج۔ القَبَّابُ اسم مبالغہ (ح) شیر۔

۵۔ قَبَّ ـِ قَبًّا و قَبِيْبًا طَيَّ الثوب کپڑے کی تہہ کو لپیٹنا۔ القَبُّ قمیص کے گریبان میں لگانے کی دھجی، چرخی کا سوراخ۔

۶۔ القَبُّ سردارقوم۔قوم کا لیڈر جس پر قوم کا دارومدار ہو۔غلہ کا ایک پیمانہ۔ القِبُّ سردار قوم، دونوں سرینوں کے درمیان پیٹھ کی ابھری ہوئی ہڈی۔ القابُ آئندہ تیسرا سال کہا جاتا ہے۔ انك لا تنجح العام الحاضر و لا القابل و لا القابّ تو نہ تو اس سال کامیاب ہوگا نہ آئندہ سال اور نہ تیسرے سال کامیاب ہوگا۔ القَابَّةُ بارش کا قطرہ۔

قبج: القَبْجُ (ح) چکور، کبک کا معرب ہے۔ القَبْجَةُ القبج کا واحد، مذکر و مونث پر اطلاق ہوتا ہے۔ القَبَاجُوْرُ او الابَاجُوْرُ کھڑکی کا قفل جس کا چھپکا چول پر گھومنے والا یا سر کٹنے والا ہو۔

قبح: قَبَحَ ـَ قَبْحًا و قُبُوْحًا هُ اللّٰهُ عن الخير کو افعال خیر سے محروم کر دینا صفت مفعولی مَقْبُوْح۔ کہا جاتا ہے۔ قَبَحْتُ لَهٗ وَجْهَهٗ یعنی میں نے اس کو قَبَحَهُ اللّٰهُ کہا قَبُحَ ـُ قَبْحًا و قُبْحًا و قَبَاحَةً و قُبَاحًا و قُبُوْحًا و قُبُوْحَةً براہونا۔ قَبَّحَ هُ اللّٰهُ عن الخير کو افعال خیر سے محروم کر دینا ـــ له وجهه کے کام کو ناپسند کرنا، کسی کے عمل کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرنا ـــ عليه فعله کے فعل کی قباحت ظاہر کرنا۔

قَابَحَ مُقَابَحَةً هُ آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ اَقْبَحَ الرَّجُلُ برا فعل کرنا۔ اِسْتَقْبَحَ الشيئَ کو برا سمجھنا۔ القُبْحُ (مص) قول یا فعل یا صورت کی برائی۔ القَبِيْحُ ج قِبَاحٌ قَبْحٰی و قَبَاحٰی برا۔ القَبِيْحَةُ ج قِبَاحٌ و قَبَائِحُ براکام، عمل قبیح۔

۱۔ قَبَحَ ـَ قَبْحًا و قُبُوْحًا و قَبَّحَ البَيْضَةَ انڈا توڑنا۔

۲۔ القَبِيْحُ و القَباحُ (ع ا) ران اور پنڈلی کے ملنے کی جگہ ـــ (ع ا) بازو کی ہڈی کا کنارا جو کہنی سے ملتا ہے۔

○ قَبَّ ـُ قَبًّا هِ کو کاٹ ڈالنا ـــ: سیدھا ہونا، کھڑا ہونا، چڑھنا، روئیں کھڑا ہونا۔ قَبّ جمع اَقُبّ: پہیے کا درمیانی حصہ، مرکز، مدار، ترازو کی ڈنڈی۔ قُبَّة جمع قِباب و قُبَب قبہ، گنبد، گنبددار عمارت، گنبد نما آستانہ، درگاہ یا مزار، یادگار، درگاہ، ولی کا کیہ۔ قُبَّة الجرس گرجے کا گھنٹہ گھر، گھنٹی گھر۔ قُبَّةُ الاسلام: بصرہ شہر کا لقب۔ مُقَبَّب گنبد نما، قبہ نما، مُحَدَّب۔ قُبَّة جمع قُبّات کالر (قمیص کی) قُبْج و قَبْج جمع قِباج ایک قسم کا تیتر۔ واحد قُبْجَة و قَبْجَة۔

○ قَبُحَ ـُ قُبْحًا و قَباحَةً بدصورت ہونا، مکروہ ہونا۔ باعث رسوائی ہونا، نفرت انگیز ہونا، خلاف طبیعت یا ناگوار ہونا۔ (جسمانی یا اخلاقی طور پر)۔ قَبَّحَ ہ/ ہ کو بدصورت، مکروہ نفرت انگیز بنانا، کو بدنما کرنا، کی شکل بگاڑنا ـــ عليه فعلهٗ کے کام کو کھلے بندوں برا، مکروہ یا رسوا کن کہنا، کو برملامت کرنا۔ اِسْتَقْبَحَ ہ/ ہ: کو بدصورت، مکروہ یا رسوا کن پانا ـــ ہ: کو رسوا کن۔ موجب ذلت، فحش، شرمناک، گھٹیا، پست یا فحش یا برا پانا، کو ناپسند کرنا۔ قُبْح و قَبْح: بدصورتی، رسوائی، ذلیل حرکت، بدنامی، ذلت، شرمساری۔ قبيح جمع قِباح و قَباحی و قَبْحی: بدصورت، مکروہ، نفرت انگیز، باعث رسوائی، خلاف طبیعت یا ناگوار، بدنام، مذموم، برا، شرمناک، ہیچ، کمینہ، گستاخ، بےشرم، بےحیا، بےمحل، بےموقع۔ قَبِيْحَة جمع قَبائِح و قِباح نفرت، شرمناک کام، گندی چال، ذلیل حرکت۔ قَباحَة۔ بدصورتی، بدنامی، ذلت، رسوائی، شرمساری۔ اَقْبَح: زیادہ بدصورت، زیادہ بدنام، زیادہ نفرت انگیز، زیادہ کمینہ، زیادہ ذلیل، زیادہ حقیر، مقابح بدنما خصوصیات، نفرت انگیز خصلتیں۔

قُبّار و قَبّار۔ جنوبی یورپ کی خاردار جھاڑی جس کی کلیوں سے اچار ڈالا جاتا ہے۔

قبر: ۱۔ قَبَرَ ـِ قَبْرًا و مَقْبَرًا الميتَ: میت کو دفن کرنا۔ اَقْبَرَ هٗ کی قبر بنانا، کو دفن کیا جانے والا بنانا۔ ـــ القومَ کو مقتول کو دفن کرنے کی اجازت دینا، کو مقتول دفن کرنے کے لئے دینا۔ القَبْرُ (مص) ج قُبُوْرٌ انسان کے دفن کرنے کی جگہ۔ القَبُوْرُ: پست زمین۔ المَقْبَرُ و المَقْبَرَةُ و المَقْبِرةُ و المَقْبُرَةُ ج مَقَابِرُ قبرستان۔ المَقْبَرِیُّ و المَقْبُرِیُّ مقبرہ کی طرف نسبت۔

۲۔ القُبَّارُ شکاری کا چراغ، لوگوں کی جماعت جو شکار کو جال سے کھینچنے کے لئے جمع ہو۔ القُبَّرَةُ و القُنْبَرَةُ و القُنْبَرَاءُ و القُنْبُرَاءُ ج قُبَّرٌ و قُبَّرٌ و قَنَابِرُ (ح) ایک پرندہ ہے جس کو فارسی میں چکاوک اور اردو میں چنڈول کہتے ہیں۔ یہ مسلسل گاتا ہے۔ یہ اپنی غذا کی تلاش میں کھیتوں اور راستوں کا رخ کرتا ہے۔ القَبَّرِيَّةُ (ن) خوبصورت ارغوانی پھولوں والا پودا۔

۳۔ القُبْرُسُ: عمدہ تانبا۔

○ قَبَرَ ـِ قَبْرًا و مَقْبَرًا ہ/ ہ کو دفن کرنا، کی قبر پر مقبرہ بنانا۔ قَبْر جمع قُبُور: قبر، تربت، مزار، مقبرہ، مزار کا گنبد۔ مَقْبَر جمع مَقَابِر مقبرہ، مدفن، قبرستان، مَقْبرة جمع مقابر بمعنی بالا۔ مَقْبَرِی و مَقْبُرِی گورکن، قبرستان کا محافظ۔ قُبَّر واحد قُبَّرَة چکاوک۔ چنڈول۔

قُبْرُص و قُبْرُس: ایک جزیرہ کا نام، قُبرصی قبرص کا، قبرص سے متعلق، قبرصی۔ القَبارِصَة: قبرص کے لوگ، باشندے۔

قبز: القُبْزُ (مو): ایک قسم کا باجا۔ القِبْزُ پستہ قد، بخیل، عوام کہتے ہیں۔ قَبَزَ الرَّجُلُ: وہ جم کر نہیں بیٹھا۔

قبس: ۱۔ قَبَسَ ـِ قَبْسًا منهُ النارَ: سے شعلہ لینا ـــ النار: آگ جلانا ـــ هُ النارَ: کسی کیلئے آگ لانا۔ اَقْبَسَ فلانًا کسی کو آگ دینا۔ اِقْتَبَسَ منه النارَ بمعنی قَبَسَ ـــ ہ نارًا: کسی سے آگ لینا۔ القابِسُ (فا) ج اَقْباسٌ: آگ طلب کرنے والا۔ القِبْسُ: اصل۔ القَبَسُ: آگ کا شعلہ۔ القَبْسَةُ: قبس کا اسم مرہ۔ قَبْسَةُ العَجْلان: جلدبازی کے لئے مثال ہے اور اس آگ لینے والے سے تشبیہ دی گئی ہے جو گھر میں داخل ہو اور صرف اتنی دیر ٹھہرے کہ آگ لے سکے۔ المَقْبَسُ ج مَقَابِسُ: لکڑی کا جلتا ہوا حصہ۔ المِقْبَس: آگ کا شعلہ لینے کی چیز۔ المِقْباسُ: آگ کا شعلہ اور اسے لینے کی چیز۔ المُقْتَبَسُ: آگ کا شعلہ۔

۲۔ قَبَسَ ـِ قَبْسًا العلمَ: علم سیکھنا، علم سے استفادہ کرنا ـــ فلانا العلمَ: کو علم سکھلانا۔ اَقْبَسَ فلانًا العلمَ: کو علم سکھلانا۔ اِقْتَبَسَ منه العلمَ: بمعنی قَبَسَ ـــ من العلم: علم سے استفادہ کرنا ـــ الشاعرُ او الكاتبُ: اپنے کلام میں کوئی آیت یا حدیث یا کسی علم کا قاعدہ شامل کرنا اس سے علم بدیع والوں کے نزدیک اقتباس ہے۔ القَوابِسُ: اچھی بات سکھانے والے لوگ۔

۳۔ القابُوْسُ: خوبصورت چہرہ اور اچھے رنگ کا مرد۔

○ قَبَسَ ـِ قَبْسًا ہ من کو سے حاصل کرنا، عاریۃً لینا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مستعار لینا، ادھار لینا، اپنانا، اخذ کرنا، قبول کرنا، اختیار کرنا۔ اِقْتَبَسَ من یا نارًا من: سے آگ لینا، مانگنا۔ — من یا علمًا من: سے علم و معرفت لینا یا حاصل کرنا، کا خواہاں ہونا۔ — ہ کو سیکھنا۔ — ہ من / عن: کو سے ادھار لینا، اپنانا، اخذ کرنا، اختیار کرنا، سنبھالنا۔ قَبَس: جلتی ہوئی لکڑی، دہکتا ہوا کوئلہ۔ قَبَسَة: جلتی ہوئی لکڑی۔ قابُوس: ڈراؤنا خواب۔ اِقْتِباس: سیکھنا، حصول علم، ادھار، قرض، ادھار لینا (مجازًا) اپنانا، اختیار کرنا، سنبھالنا، ذمے لینا، تحویل میں لینا، قبولیت، ادبی متن یا عبارت کے ٹکڑے کو حالات کے مطابق ڈھالنا۔ (کسی اور کے ادبی عمل یا خیالات کا) اقتباس، حوالہ۔ مُقْتَبَسات: قرضے، مستعار لی ہوئی (چیزیں)۔

قبص ۱۔ قَبَصَ ۔ قَبْصًا ۔ الفرسُ: گھوڑے کا بہت تیز دوڑنا صفت قَبُوْص ۔ قَبِصَ ۔ قَبَصًا: سبک ہونا، چست ہونا۔ القَبُوْص: ہلکا پھلکا چست۔ القَبِصَی: تیز دوڑ۔ الاَقْبَص من الخیل مونث قَبْصَاءُ ج قُبْصٌ: ہلکا پھلکا چست۔ المِقْبَص ج مَقَابِص: رسی جو گھوڑ دوڑ کے میدان میں باندھ دی جاتی ہے تاکہ سارے گھوڑے ایک قطار میں ہو جائیں۔ (دوڑنے کے لئے)

۲۔ قَبَصَ ـِ قَبْصًا و قَبَّصَ ۔ الشیئَ: کی چٹکی لینا۔ اِقْتَبَصَ قَبْصَةً من کذا: کی چٹکی لے لینا۔ القَبْصَةُ و القُبْصَةُ ج قُبَصٌ و القُبَیْصَةُ: چٹکی۔ — من الطعام: لپ بھر خوراک۔ الاَقْبَصُ مونث قَبْصَاءُ ج قُبْصٌ: وہ شخص جو چلنے میں قدم کے اگلے حصے سے غبار اڑائے اور غبار ایڑی پر پڑے۔

۳۔ قَبَصَ ـِ قَبْصًا الرجلَ: کو سیراب ہونے سے پہلے پینے سے روکنا۔

۴۔ قَبِصَ ـَ قَبَصًا الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونا۔ قَبِصَ ـَ قَبَصًا: بڑے سر والا ہونا۔ الاَقْبَصُ: مونث قَبْصَاءُ ج قُبْصٌ: بڑی کھوپڑی والا۔ القَبْصَاءُ: بڑی کھوپڑی۔

۵۔ قَبِصَ ـَ قَبَصًا: جگر کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ القَبْصُ والقَبَصُ (طب): کھجوریں اور پانی پینے کی وجہ سے جگر کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔

۶۔ قَبِصَ ـَ قَبَصًا و تَقَبَّصَ الجرادُ علی الشجر: ٹڈیوں کا درخت پر اکٹھا ہونا۔ القَبْصُ: بہت ریت کا ڈھیر۔ القِبْصُ: ریت کا بڑا ڈھیر، بہت سے لوگ۔ حَبْلٌ قَبِصٌ: چھوٹی رسی۔ القَبِیْصُ: مٹی کا ڈھیر۔ القَبِیْصَةُ: مٹی کا ڈھیر، کنکری۔ القَوَابِصُ واحد قَابِصَةٌ: جماعتیں، پارٹیاں۔ — حبل مُقَبَّصٌ: چھوٹی رسی۔

۞ قَبَصَ ـِ قَبْصًا ہ: کو انگلی اور انگوٹھے سے اٹھانا۔ کو چٹکی بھر لینا۔ قَبْصَة و قُبْصَة: چٹکی بھر، چٹکی۔

قبض ۱۔ قَبَضَ ۔ قَبْضًا بیده الشیئَ و علی الشیئ: کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا، پنجہ سے پکڑنا۔ الشیئَ: سمیٹنا کہا جاتا ہے۔ اللّٰه یقبض ویبسط یعنی اللہ کسی پر وسعت ڈالتا ہے اور کسی پر تنگی ڈالتا ہے۔ — الطائرُ جناحَهُ: پرندے کا بازو سمیٹنا۔ الحادی الابلَ: اونٹ کو تیز ہانکنا۔ — فی حاجته: میں جلدی کرنا، دامن سمیٹنا۔ — القومُ: تیز چلنا۔ — ہ اللّٰهُ: کو وفات دینا۔ — بطنُه: قبض ہونا۔ الدارَ ونحوَها: پر قبضہ کرنا۔ — منه المالَ: سے اپنے لئے مال لینا۔ — قَبْضَةً: مٹھی بھر لینا، کہا جاتا ہے۔ اِنَّهُ یَقْبِضُنِیْ مَاقَبَضَكَ: جس چیز نے تجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ قُبِضَ: مرنا۔ المریضُ قریب الرگ ہونا۔ قَبَّضَ ۔ الشیئَ: کو جمع کرنا، سمیٹنا، سکیڑنا کہا جاتا ہے۔ قَبَّضَ وَجْهَهُ فَتَقَبَّضَ: اس نے اپنا منہ بگاڑا پس وہ بگڑ گیا، اور کہا جاتا ہے۔ قَبَّضَ مَابَیْنَ عَیْنَیْه: اس نے اپنی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر شکن ڈال لیا۔ — المالَ فلانًا: مال کسی کے قبضہ میں دینا۔ قَابَضَ مُقَابَضَةً ہ: کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ اَقْبَضَ السیفَ: تلوار کا قبضہ بنانا۔ فلانًا المتاعَ: کو سامان پر قبضہ کرنے کے لئے ابھارنا۔ تَقَبَّضَ: جمع ہونا۔ الجلدُ فی النار: آگ میں کھال کا سکڑ جانا۔ — علی الامر: پر توقف کرنا۔ — الیه: پر کودنا۔ تَقَابَضَ المتبایعان: فروخت کنندہ کا قیمت وصول کرنا اور خریدار کا خریدی ہوئی چیز وصول کرنا۔ اِقْتَبَضَ قَبْضَةً: مٹھی بھر لینا۔ — منه المالَ: کو اپنے لئے لینا۔ اِنْقَبَضَ الشیئُ: سمٹنا، ملنا۔ — بطنُهُ: قبض ہونا۔ — فی حاجته: میں جلدی کرنا اور دامن سمیٹنا۔ — القومُ: تیز چلنا۔ القَبْضُ (مص): تیز ہانکنا کہا جاتا ہے۔ صَارَ المَالُ فِیْ قَبْضِه: مال اس کی ملکیت میں ہو گیا۔ عند العروضیین: لفظ کے پانچویں جگہ سے ساکن حرف کا حذف کر دینا جیسے فَعُوْلُنْ سے نون حذف کیا تو باقی فَعُوْلُ رہ گیا اس جزء کا نام مقبوض رکھا گیا۔ القَبَضُ: قبضہ کیا ہوا مال، سکڑنا، جلدی، تقسیم سے پہلے مال غنیمت۔ القُبْضَةُ: جس پر تو نے قبضہ کیا، مقبوضہ شئے۔ — من الشیئ: مٹھی بھر چیز۔ القَبْضَةُ: قَبَضَ کا اسم مرہ۔ مقبوضہ شئے (کہا جاتا ہے: صَارَ الشیئُ فِی قَبْضَتِه: مال اس کی ملکیت میں ہو گیا۔) موت — من الشیئ: مٹھی بھر چیز۔ قَبْضَةُ السَّیْفِ: تلوار کا دستہ یا قبضہ۔ القُبَضَةُ: منتظم چرواہا کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ "قُبَضَةٌ رُفَضَةٌ: قبضہ کرنے والا اور جلدی چھوڑنے والا۔ الامرو۔ القَابِضُ (فا): تیز ہانکنے والا۔ من الادویة: قبض کرنے والی دوا۔ قَابِضُ الاَرْوَاحِ: حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ القُبَاضُ و القُبَاضَةُ: سکڑ جانا۔ جلدی۔ القَبَّاضُ و القَبَّاضَةُ: بہت سخت قبضہ کرنے والا، تیز ہانکنے والا۔ القَبِیْض: سکڑا ہوا، تیز، اپنے کام پر متوجہ عقلمند کاریگر۔ المِقْبَضُ و المَقْبَضُ و المَقْبِضُ و المِقْبَضَةُ و المَقْبَضَةُ و المَقْبُضَةُ: تلوار وغیرہ کا قبضہ ج مَقَابِضُ۔

۳۔ قَبَضَ ـِ قَبْضًا یَدَهُ عن الشیئ: کو پکڑنے سے باز رہنا۔ — ہ عن الامر: کو سے ہٹانا۔ الرجلُ عن القوم: قوم کو چھوڑ دینا۔ تَقَبَّضَ الرجلُ من الامر: سے نفرت کرنا۔ اِنْقَبَضَ الرجلُ عن القوم: کو چھوڑ دینا۔ القَابِضُ (فا) من الطعام: زبان پکڑنے والی خوراک۔

۞ قَبَضَ ـِ قَبْضًا ہ / ہ / ب / علی: کو لینا، پکڑنا، تھامنا، زور سے پکڑنا، مٹھی میں لینا، دبانا، بھینچنا، چنگل میں لینا، کو قبضہ میں لینا، روکنا، قابو میں رکھنا۔ — علی: کو گرفتار کرنا۔ — ہ: کو وصول کرنا، جمع کرنا، سمیٹنا، سکیڑنا۔ — البطنَ: کو قبض کرنا (یعنی کسی کو قبض ہو جانا)۔ — ہ: کو مایوس کرنا، ناامید کرنا، بے دل کرنا، کی ہمت توڑنا، کو بددل کرنا، افسردہ کرنا، دبانا، پست کرنا۔ قُبِضَتْ روحُهُ یا قُبِضَ: مرنا۔ قَبَضَ اللّٰه روحَهُ یا قَبَضَهُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو موت دینا، مارنا۔ قَبَضَ یَدَهُ عن: کو کسی شخص یا چیز پکڑنے سے روکنا۔ قبض النفسَ / الصدرَ: کو دبانا، پست کرنا، بددل کرنا، افسردہ کرنا۔ قَبَّضَ ہ: کو سمیٹنا، سکیڑنا۔ — ہ: ہ کو کے قبضہ میں دینا۔ — ہ (قیمت) ادا کرنا۔ قَبَّضَ النفسَ: الصدرَ کو دبانا، پست کرنا، بددل کرنا، افسردہ کرنا۔ تَقَبَّضَ: سکڑنا، سمٹنا، جھریاں پڑنا، قبض ہونا۔ اِنْقَبَضَ: سکڑنا، سمٹنا، جھریاں پڑنا، قبض ہونا، وصول ہونا۔ — عن: سے کٹ جانا، منقبض ہونا۔ — وانقبض صدرُهُ: دبنا، افسردہ ہونا، ناامید ہونا، مایوس ہونا، شکستہ دل ہونا۔ قَبْض: پکڑنا، پکڑ، گرفت، قبضہ لینا، تھامنا، قبضہ کرنا۔ — علی: کی گرفتاری، — (روپیہ) وصول کرنا، (روپیہ کی) وصولی، سکڑنا، سکیڑ، سمٹاؤ، قبض۔ القبضُ والدَّفْع: آمد و خرچ آمدنیاں اور مصارف (اخراجات)۔ اَلْقَی القبضَ علی: کو گرفتار کرنا۔ قَبْضَة ج قَبَضَات: گرفت، پکڑ، قابو، قبضہ، مٹھی بھر، ۵ء۱۲ سینٹی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

میٹر کا پیمانہ۔ جمع قِبَاض: موٹھ، قبضہ، دستہ، قبضة
الید: مشت، مٹھی، مکا۔ فی قبضته: کے قبضہ میں،
کے ہاتھوں میں، کے بس میں۔ فی قبضة یده: بمعنی
بالا۔ وَقَع فی قبضته: کے قبضہ میں آجانا۔ قُبْضَة
جمع قُبَض: مٹھی بھر۔ قِبَاضة: (ٹیکس وغیرہ) کی
فراہمی، ٹیکس لگانا، جمع کرنا۔ قَبَضَاي: جمع قبضايات:
مضبوط بازو (خصوصاً سیاستدانوں اور ممتاز شخصیتوں کا
باڈی گارڈ۔ مَقْبِض و مِقْبَض: جمع مقابِض: دستہ،
موٹھ، قبضہ۔ مِقْبَض: جمع مَقَابِض: دستہ، موٹھ
(چھری وغیرہ کی) تَقَابُض: (کسی سامان تجارت اور
اس کے ہم قیمت زر کا خریدار اور فروخت کنندہ کی
طرف سے علی الترتیب) باہمی قبضہ میں لینا۔
انقباض: سکڑنا، سمٹنا۔ قبض: (بیماری) کوفت،
(ذہنی) اذیت، افسردگی، اداسی۔ انقباض الصدر:
بمعنی بالا۔ قابض: قبض کن، پریشان کن، وصول کنندہ،
شکنجہ، چمٹا، پکڑنے یا تھامنے کا آلہ۔ جمع قابضون
و قُبَّاض: (ٹیکس) کلکٹر۔ عَضَلَة قَابِضَة: عضو کو
جھکانے اور موڑنے والا پٹھا۔ قابض علی الامر:
حاکم، فرمانروا۔ مَقْبُوض علیه: زیر حراست شخص۔
مقبوضات و مقابیض: حکومت کا مالیہ، مال گزاری،
آمدنی۔ مُنْقَبِض: پریشان، مایوس، ناامید، بے دل،
افسردہ، افسردہ دل، سرنگوں، گومگو کی حالت میں۔
مُنقبض النفس (الصدر): بمعنی بالا۔

قبط: قَبَطَ ـُ قَبْطًا الشیئ: کو ہاتھ سے جمع کرنا، ملانا۔
قَبَّطَ وجهَهُ: ترش روئی کرنا، منہ بگاڑنا۔ القَبَّاط
والقُبَّیط والقُبَّیطی والقُبَّیطاء: ایک قسم کی مٹھائی،
ریوڑی۔
۲ـ قَبَطَ ـُ قَبْطًا الولدُ عند العامه: بچہ کا ڈر کر بھاگنا
(سریانیہ)۔ القَبُّوط (ح): ٹڈی (عامیہ)
۳ـ النَبط والقِبْطُ او الاقباط واحد قِبْطِیٌّ: مصر میں
نصرانیوں کی ایک جماعت۔ القُبْطِیَّة والقِبْطِیَّة ج
القَبَاطِی والقَبَاطِیُّ: کتان کا کپڑا جو قبط کی طرف
منسوب ہے۔
◯ قَبَّط وَجْهَهُ: بھویں سکیڑنا، تیوری چڑھانا، قہر آلود
نگاہیں ڈالنا، کڑے تیوروں سے دیکھنا۔ القِبْط والقبط
جمع الاقباط: قبطی لوگ۔ قِبْطِی وقبطی: قبطی۔
قُبْطان جمع قَبَاطِین و قَبَاطِنة: کپتان (جہاز کا) کپتان
(ایک فوجی عہدہ دار)

قبع: قَبَعَ ـَ قُبُوعًا القنفذ: سیہی کا اپنے کھال میں سر
چھپانا۔ — رأسهُ: سر کو کپڑے میں داخل کرنا۔ — الرجُل
فی قمیصه: گریبان میں سر ڈالنا۔ — فی الارض:
میں جانا۔ قَبَع قَبْعًا الجوالق: گون کے کنارے
موڑنا۔ قَبَعَ قَبْعًا و قُبُوعًا النجمُ: ستارے کا
ظاہر ہو کر چھپ جانا۔ — ت المرأةُ: عورت کا چھپنا —
فی منزله: گھر میں چھپنا۔ صفت قَابِع ج قُبَّع۔
قَبَعَ قَبْعًا وقِبَاعًا و قُبَاعًا واِقْتَبَعَ المزادةَ: مشک
کے منہ سے منہ لگا کر پینا۔ اِنْقَبَعَ الرجُلُ: سر کا
کپڑے میں داخل کرنا۔ — الطائر فی وکره: پرندے
کا گھونسلے میں داخل ہونا۔ القُبَع: بگل، عوام کے
نزدیک، سر کا رومال یا ٹوپی اسے۔ قُبُوعِی بھی کہا جاتا
ہے۔ یہ سریانی لفظ قبع سے ماخوذ ہے۔ القُبَع والقباع
(ح) سیہی، ایک قسم کا دریائی جانور۔ القُبَعَة (ح):
ایک چھوٹا سا پرندہ جب اسے پتھر وغیرہ سے ڈرایا
جائے تو ڈرتے ہوئے بھاگ کر بل میں داخل ہو جاتا
ہے۔ القَبَّعَة: بچوں کی ایک قسم کی ٹوپی، ٹوپی۔ القَبِیعَة
من السیف: تلوار کے دستہ پر چاندی یا لوہے کی گرہ۔
۲ـ قَبَعَ ـَ قَبْعًا و قِبَاعًا و قُبَاعًا الخنزیرُ: سور کا غرانا۔
— الفیل: ہاتھی کا چنگھاڑنا۔ القَبَّاع: خنزیر۔ القِبِّیعَة
و القِنْبِیعَة: سور کی ناک کا بانسہ۔
۳ـ قَبَعَ ـَ قَبْعًا و قُبُوعًا عن اصحابه: سے تخلف
کرنا۔ — الرجُلُ: تھکنا، ہانپنا۔ القَبَّاع: بزدل۔
القَوَابِع: گھوڑ دوڑ میں پیچھے رہے ہوئے گھوڑے۔
۴ـ قَبَعَ ـَ قَبْعًا الشیئَ عند العامة: کو اکھیڑنا،
کھینچنا (سریانیہ) اِنْقَبَعَ الشیئُ: اکھڑنا (عامیہ)
۵ـ القَبَاع: بیوقوف مرد، ایک بڑا پیمانہ کہا جاتا ہے یا ابنَ
قابعاءَ و یا ابنَ قَبَعَة یعنی اے احمق۔ القُبَاعِیُّ:
بڑے سر والا مرد
۶ـ القَبَعْثَرَی والقَبَعْثَر ج قَبَاعِث: بہت بڑا (ح) بڑا
اونٹ۔

قبق: ۱ـ قَبْقَبَ قَبْقَبَةً الفَحْلُ: بڑبڑانا۔ القَبْقَبُ:
پیٹ۔ القَبْقَبَةُ (مص) گھوڑے کے پیٹ کی آواز۔
القَبْقَابُ ج قَبَابِیب: کھڑاؤں۔
۲ـ قَبْقَبَ قَبْقَبَةً الرجُلُ: بے وقوف ہونا۔
القَبْقَابُ والقُبَاقِبُ: بہت بولنے والا۔ بک بک کرنے
والا۔ جھوٹا، سخت آدمی۔
۳ـ القُبَاقِبُ: آئندہ تیسرا سال کہا جاتا ہے۔ انك لاتفلح
العام والا لقابل ولا القباقِبَ: یعنی نہ تم اس سال
کامیاب ہو گے نہ آئندہ سال اور نہ تیسرے سال۔
القِبْقِبُ (ح) دریائی سیپی۔
◯ قَبَعَ ـَ قبوعًا: (خارپشت، سیہی کا) اپنا سر اندر کھینچ لینا؛
سکیڑ لینا، سمیٹ لینا، بیٹھنا، دبکنا، گھات میں بیٹھنا۔ —
قبعًا و قِباعًا و قُباعًا: (سور کا) غرانا (ہاتھی کا)
چنگھاڑنا۔ قُبَّعَة جمع قُبَّعَات: ہیٹ، ٹوپی، نمدے کی
چھوٹی ٹوپی۔ مُقَبَّع: ہیٹ پہنے ہوئے، سر پر ہیٹ
رکھے ہوئے۔

◯ قَبْقَبَ: ابھرنا، پھولنا۔ قَبْقَاب جمع قَبَاقِیب: لکڑی کی
کھڑاویں۔ قبقابُ الانزلاق: برفانی کھڑاؤں
(Skate) مِسْمَارٌ قَبَاقِبِی: چھوٹا کیل، نیلا کوکا۔

قبل: ۱ـ قَبَلَ ـُ قَبْلًا علی الشیئ: کو شروع کرنا اور اس
سے جدا نہ ہونا، میں مشغول ہونا۔ قَبِلَ ـِ قَبَالَةً به:
کا کفیل وضامن ہونا۔ قَبُلَ ـُ قَبَالَةً به: کا کفیل
وضامن ہونا۔ قَبَّلَ العامِلَ العملَ: مزدور سے کام کا
عہد لینا، اسم قَبَالَة۔ اَقْبَلَ علی الشیئ: میں
مشغول ہونا۔ تَقَبَّلَ العملَ: کام کی ذمہ داری
اٹھانا۔ القِبَل: طاقت، قدرت، جیسے مالی به قِبَل:
مجھے اس کی طاقت نہیں۔ کہا جاتا ہے۔ لِیْ قِبَلَ فُلَانٍ
دَیْنٌ: میرا فلاں کے پاس قرض ہے۔ القُبْلَةُ ج
قُبَل: کفالت۔ القَبَالَة (مص) ضمانت، عہد (کام
یا قرض وغیرہ کا) القَبِیْلُ ج قُبُل وقُبَلاءُ: ضامن،
کفیل۔
۲ـ قَبَلَ ـُ قَبْلًا المکانَ: کی طرف متوجہ ہونا کہا جاتا
ہے۔ قَبَلَتِ المَاشِیَةُ الوَادِیَ: جانور وادی کی
جانب متوجہ ہوئے۔ — الیوم: دن کا قریب ہونا۔ —
الرجُل: آنکھوں میں کجی والا ہونا۔ قَبَلَ قَبْلًا
وقُبُولًا ت ریحُ القبول: پروائی ہوا چلنا۔ قَبِلَ ـَ
قَبَلًا الرجُلُ: بھینگی نظر والا ہونا۔ قَبِلَ القومُ: کو
پروائی ہوا لگنا۔ قَابَلَ ہ: کے سامنے ہونا۔ الشیئَ
بالشیئ: مقابلہ کے لئے دو چیزوں کو آمنے سامنے
کرنا۔ اَقْبَلَ الیومُ: دن کا قریب ہونا۔ — الیه: کے
پاس آنا۔ — علیه: کی طرف متوجہ ہونا۔ — القومُ: کو
پروائی ہوا لگنا۔ — ت الارضُ بالنبات: زمین
میں نباتات کا بڑھنا۔ — فلانًا الشیئ: کو کے آگے
کرنا، کہا جاتا ہے۔ اقبلتُ زیدًا مرة واد برته:
یعنی چلنے میں زید کو کبھی آگے کیا کبھی پیچھے کیا۔ اور کہا
جاتا ہے۔ اِذْهَبْ به فَاَقْبِلْهُ الطریقَ: اس کو لے
جاؤ، راستہ بتلاؤ اور سامنے کر لو۔ — الزرع و نحوُهُ:
کھیتی وغیرہ میں بکثرت غلہ ہونا صفت۔ مُقْبِل مونث
مُقْبِلَة (عامیہ)۔ تَقَبَّلَ اباه: باپ کے مشابہ ہونا۔
تَقَابَلَ الرجُلانِ: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔
اِقْتَبَلَ الامرَ: کام ازسرنو کرنا۔ اِقْبَلَ اِقْبِلَالًا و
اِقْبَالَ اِقْبِیْلَالًا — ت عینُهُ: کی نگاہ کا بھینگا ہونا۔
اِسْتَقْبَلَ الرَجلَ: کی طرف توجہ کرنا۔ کی طرف رخ
کرنا — الشیئَ: کے مقابل ہونا، کے سامنے ہونا۔ —

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الرجُلَ: کے مقابل ہونا، کی طرف منہ کرنا۔ القابِلُ (فا) ح قَبَلَۃ: آئندہ سال۔ القابِلَۃ ج قَوَابِل وقَابِلاتٌ: آنے والی رات۔ قَوَابِلُ الامرِ: شروعات کہا جاتا ہے۔ اخذت الامر من قوابلہ یعنی میں نے کام کو اس کے شروعات سے لیا۔ القُبُلُ والقُبْلُ ح اَقْبَال: اگلا حصہ۔ من الزمان: ابتدائی زمانہ کہا جاتا ہے۔ اَقْبَلَ قُبُلَہٗ یعنی اس نے اس کا قصد کیا، کہا جاتا ہے۔ رأیتُہٗ قُبُلاً: یعنی میں نے اس کو ظاہر طور پر سامنے دیکھا، کہا جاتا ہے۔ رأیتُہٗ قُبُلاً و قَبَلِیًّا: یعنی میں نے اس کو ظاہر طور پر سامنے دیکھا۔ القَبَلُ (مص): سامنے کی بالائی زمین، بکری کے سینگوں کا چہرے پر ہونا (کہا جاتا ہے: حَیَّا اللّٰہُ قَبَلَہٗ: اللہ باقی رکھے اس چیز کو اس سے پہلے نظر آئے) ہر چیز جو پہلے نظر آئے، واضح راستہ، ہاتھی دانت وغیرہ کا گول تعویذ جو عورت اور گھوڑے کے سینہ پر لٹکایا جاتا ہے۔ فی العین آنکھ کی سیاہی کا ناک کی طرف جھکنا۔ — فی العینین: ہر ایک آنکھ کی نگاہ کا ایک دوسرے کی طرف جھکنا، کہا جاتا ہے۔ رأیتُہٗ قَبَلاً: میں نے اسے صاف سامنے دیکھا۔ کہا جاتا ہے اتانی من قبلہ: وہ میرے پاس اس کے ہاں یا طرف سے آیا۔ رأیتُہٗ قِبَلاً: میں نے اسے صاف سامنے دیکھا القَبَلَۃ ج قَبَلٌ والقَبْلَۃ و القُبْلَۃ: ایک قسم کا مہرہ جس کو جادوگرنی استعمال کرتی ہے اور اس سے جادو کرتی ہے۔ القِبْلَۃ قِبَل کا اسم نوع، جہت، اسی سے ہے قِبْلَۃُ المُصَلِّی: جہت جدھر نماز پڑھی جاتی ہے، جس چیز کا سامنا کیا جائے، کہا جاتا ہے۔ مَالَہٗ فی ھٰذا الامرِ قِبْلَۃٌ وَلا دِبْرَۃٌ: اس کیلئے اس معاملہ میں آگا پیچھا نہیں یعنی نہیں جانتا کہ کہاں سے پکڑے، اور کہا جاتا ہے اجعلوا بیوتکم قِبْلَۃً: اپنے مکانوں کو آمنے سامنے کرو۔ القِبَالُ من النعل: تسمہ، کہا جاتا ہے رجل منقطع القِبَال: مرد بدرائے، کہا جاتا ہے جلس قُبَالَتَہٗ: وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ الاَقْبَلُ مؤنث قَبْلاءُ ج قُبْلٌ: وہ شخص جس کی آنکھوں میں بھینگا پن ہو۔ — رَجُلٌ اَقْبَلُ: ناک کی جانب دیکھنے والا امرد۔ القَبُوْلُ (مص): عافیت اور نعمت وغیرہ کا آنا، اچھی ہیئت، باد صبا۔ القَبِیْلُ: خدا کی اطاعت (دَبِیْر: خدا کی نافرمانی) کہا جاتا ہے مایعرف قبیلا من دبیر: وہ آنے جانے والے کو نہیں پہچانتا، کہا جاتا ہے مِنْ قبیل ذالک: اس کی جہت سے اور کہا جاتا ہے رأیتہ قبیلا: میں نے اس کو صاف سامنے دیکھا۔ جمع قُبُل و قُبَلاء: شوہر تَقَابُلُ: اسے

استقبال بھی کہا جاتا ہے استقبال و مُقَابَلَۃُ القمرِ (او سیارۃ) والشمس (فلک): زمین کا چاند (یا سیارۃ) اور سورج کے درمیان ہونا اور جب چاند سورج کے سامنے آجاتا ہے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ الاِسْتِقْبَالُ (مص) من الزمان: حال کے بعد آنے والا زمانہ۔ الرَّجُلُ المُقَابَلُ (مفع): ماں باپ کی طرف سے شریف مرد، کہا جاتا ہے۔ رجل مُقَابَلٌ مُدَابَرٌ نجیب الطرفین مرد۔ رجل مُقْتَبَلُ الشباب: نوجوان مرد جس میں بڑھاپے کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ المُسْتَقْبِلُ (فا) والمستقبَلُ من الزمان: آئندہ زمانہ۔

۳۔ قَبِلَ ۔ قَبُوْلًا و قُبُوْلًا الکلامَ: کی تصدیق کرنا۔ — الشیئَ: کو لینا۔ قَبِلَ قِبَالَۃً ت المرأۃُ: عورت کا دائی جنائی ہونا۔ ت القابلۃُ الولدَ: بچہ کی دایہ گری کرنا۔ تَقَبَّلَ ہٗ: کو لینا۔ اللّٰہُ دعاءَہٗ: کی دعا قبول کرنا۔ — تہُ السعادۃُ: میں نیک بختی ظاہر ہونا۔ القَابِلُ ج قَبَلَۃٌ: آمادہ قبول، متاثر۔ القَابِلَۃُ ح قَوَابِلُ و قَابِلَاتٌ: قابل کی مونث۔ دائی جنائی۔ القَابِلِیَّۃُ: قبول اور تاثر کی آمادگی کی حالت۔ — (طب): کھانا کھانے کو جی چاہنا۔ القَبَلُ: دایہ کی بچہ جنانے کی لطیف تدبیر۔ القَبُوْلُ: دائی جنائی۔ القبیل من النساء: دائی جنائی۔ المُقَبَّلُ: مقبول (مفع)۔

۴۔ قَبَّلَ ہٗ: کو بوسہ دینا۔ — تہُ الحمّٰی: بخار کی وجہ سے ہونٹوں پر دانے نکل آنا۔ القُبْلَۃُ ج قُبَلٌ: بوسہ۔

۵۔ اِقْتَبَلَ الکلامَ: فی البدیہہ کہنا۔ القَبَلُ: فی البدیہہ کلام کہنا۔

۶۔ اِقْتَبَلَ الرجلُ: بے وقوفی کے بعد عقلمند ہونا۔

۷۔ قَبْلُ: پہلے، آگے یہ ظرف زمان ہے کبھی معرب ہوتا ہے جیسے مَاتَ الخلیفۃُ و مات الوزیر قبلَہٗ و من قبلِہٖ، کبھی مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، اگر نیت میں ہو تو مبنی علی الضم ہوتا جیسے مات الخلیفۃُ و مات الوزیرُ قَبْلُ و مِن قَبْلُ اور اگر مضاف الیہ نہ لفظوں میں ہو نہ نیت میں ہو تو معرب جیسے مات الخلیفۃ و مات الوزیر قبلاً و من قبلٍ قُبَیْلُ قَبْلُ کی تصغیر کہا جاتا ہے۔ جاءَ فلان قبیل العصر: یعنی فلاں عصر سے کچھ پہلے آیا۔ القُبْلُ والقُبُلُ من الجبل ج اَقْبَال: دامن کوہ۔ القَبِیْلُ ج قُبُلٌ و قُبَلاءُ: تین یا زائد کی جماعت۔ القَبِیْلَۃُ ج قَبَائِلُ: ایک باپ کے بیٹے، کنویں کے منہ کا پتھر، چمڑے کا ہر ایک ٹکڑا۔ — قبائل الرأسِ: سر کی ہڈی کے ٹکڑے بعض بعض سے ملے ہوئے۔ قبائل الطیر: پرندوں کی قسمیں قبائل الشجرۃ: درخت کی شاخیں۔ قبائل الثوبِ: کپڑے کے ٹکڑے۔ المُقْبَلُ من الثیاب: پیوند لگا ہوا کپڑا۔

○ قَبِلَ ـــ قَبُوْلًا و قُبُوْلاً ہٗ/ ھ/ ب: کو قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ — ہٗ: کا مہمان نوازی سے استقبال کرنا۔ ہٗ/ ھ: کا خیر مقدم کرنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔ — ھ: پر متفق ہونا، کو برداشت کرنا۔ — ھ/ ب: سے متفق ہونا۔ — ہٗ/ ھ فی: کو میں داخل کرنا۔ — مِن: کا حکم ماننا، کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کی اطاعت اختیار کرنا۔ قَبَلَ ـــ و قَبِلَ ـَـ قَبَالَۃً ب: کی ضمانت دینا، کا ذمہ دار ہونا، کا ضامن ہونا۔ قَبِلَ الذھابَ معیَ: وہ میرے ساتھ جانے پر رضامند تھا۔ داءٌ یقبلُ الشفاءَ: قابل علاج مرض، بضائع تقبل الالتھاب: (انتہائی) آتش گیر تجارتی مال۔ اَثمانٌ لاتقبل المزاحمۃَ: مسابقت کی طاقت سے باہر قیمتیں۔ قبل شکًّا: بادل نخواستہ شک کو تسلیم کرنا۔ قَبَّلَ ہٗ/ ھ: کو چومنا۔ — جنوب یا جنوبی طرف جانا۔ قَابَلَ ہٗ/ ھ: کے بالکل سامنے ہونا یا کے بالکل سامنے کھڑا ہونا، کے آمنے سامنے ہونا۔ — ہٗ: کا سامنا کرنا، سے مزاحم ہونا، — ھ ب: (صورت حال) کا (ہوشیاری) کے ساتھ سامنا کرنا۔ — ہٗ: سے ملنا، ملاقات کرنا۔ —— ھ ب: (خطرہ) کا کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ — ہٗ: سے مڈبھیڑ ہونا، اتفاقی ملاقات ہونا، سے ملاقات کو آنا جانا، سے ملاقات کرنا، سے بات چیت کرنا، انٹرویو کرنا (رسمی ملاقات میں) کا استقبال کرنا۔ کو شرف باریابی دینا۔ —— ہٗ/ ھ ب کا (خبر، خوشی) سے استقبال کرنا۔ — ھ ب کو کے ساتھ واپس کرنا، چکانا، ادا کرنا، کا سے بدلہ دینا، —— ھ ب/ علی: کا سے مقابلہ کرنا، کتاب کے نسخوں کا سے مقابلہ کرنا۔ قابلَہٗ علی الرحب و السعۃ: کسی شخص یا چیز کا خیر مقدم کرنا۔ قابلَہٗ بالمِثل: سے ادلے کا بدلہ لینا کو ترکی بترکی جواب دینا، کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا، سے بدلہ لینا۔ اَقْبَلَ علی: کسی شخص یا جگہ کے قریب آنا، قریب ہونا، کے پاس آنا، کی طرف بڑھنا، پیش قدمی کرنا، کا رخ کرنا، کی طرف توجہ کرنا، میں مشغول ہونا، کسی شخص یا چیز کی طرف توجہ دینا، اپنے آپ کو کی نذر کرنا، کے لئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، کسی کام میں لگ جانا، یا اس کا آغاز کرنا، کسی کام کو تن دہی سے کرنا، کسی کام میں مشغول رہنا، لگا رہنا، میں دلچسپی لینا، کے پاس جانا یا آنا۔ — فصل کا بالافراط ہونا، آگے بڑھنا۔ اقبل یفعل: کچھ کرنے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لگنا۔ اقبل علیه الدهرُ یا اقبلت علیه الدنیا: وہ خوش قسمت ہے، خوش بختی، اس کو پسند کرتی ہے۔ تَقَبَّلَ ہ: کو قبول کرنا، وصول کرنا، ـــــ دعاءہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی دعا کو سننا یا منظور کرنا۔ تَقَابَلَ: ایک دوسرے کے مقابل ہونا، آمنے سامنے ہونا، دو شخصوں کا آپس میں ملنا ـــ مع: سے ملاقات کرنا۔ ـ: مقابلہ کیا جانا، مقابلہ ہونا۔ اِقتبل ہ/ ہ: کو پانا ـــــ ہ: کو خوشی سے تندہی کے ساتھ کرنا۔ اِستَقبَلَ ہ/ ہ: کی طرف منہ کرنا۔ رخ کرنا، سے ملنا، کو ملنے جانا ـــــ ہ/ہ: کا سامنا کرنا ـــ ہ: کوڈے لینا، ہاتھ میں لینا، کی ذمہ داری یا کا بوجھ اٹھانا۔ ہ: ملنے آنے والے یا مہمان کا استقبال کرنا۔ (ریڈیو) سننا۔ قَبْلُ یا مِن قبلُ و قَبْلًا: پہلے قبل ازیں۔ مِن ذی قبلُ، عن ذی قبلُ: پہلے کے مقابلہ میں۔ قَبْلَ: سے پہلے قَبْلَ كُلِّ شيءٍ: سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر یہ کہ مِنْ قبلِ: سے پہلے۔ قَبْلَ ان: سے پہلے۔ قَبْلَئِذٍ: پہلے، ایک موقع پر، ایک زمانہ میں، اگلے وقتوں میں، سابق میں۔ قُبَيْلَ: سے کچھ پہلے۔ قُبَيْلَ ان: سے کچھ پہلے۔ قُبُل و قُبْل: اگلا حصہ، ماتھا، پیشانی۔ مِنْ قُبُلٍ: سامنے، سامنے سے۔ قِبَل: طاقت، قوت، قابلیت۔ قِبَلَ: کی موجودگی میں، کے سامنے، کے قریب، کے رخ، کی طرف۔ لاقِبَلَ لهُ به: یہ اس کے بس میں نہیں۔ وہ اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں۔ مِنْ قِبَلِ: کی طرف سے، کی جانب سے، کی وساطت سے، کے ذریعے سے۔ مِنْ قِبَلِ نفسه: خود اس کی طرف سے، خود اس سے لِی قِبَلَهُ دَيْنٌ: وہ میرا مقروض ہے۔ قُبْلَة جمع قُبُلات و قُبْلات و قُبَل: بوسہ۔ قِبْلَة: قبلہ، کعبہ جس کی طرف نماز میں مسلمان رخ کرتے ہیں۔ مسجد میں قبلہ رخ گوشہ، طاق صلوٰۃ۔ اُولَى القِبلَتَيْن: دو قبلوں میں سے پہلا قبلہ (یروشلم، بیت المقدس) قِبلَةُ الأنظار: مرکز نگاہ، نگاہوں کا ہدف، نصب العین، مقصد زندگی۔ قِبلَةُ الاهتمام: مرکز توجہ، وسیع و عریض دلچسپی کا مرکز۔ قِبْلِي: جنوبی۔ الوَجهُ القِبلي: بالائی مصر۔ قَبُول و قُبُول: (دوستانہ) استقبال، خوش آمدید، منظوری، یکدلی، رضا مندی، داخلہ، عَدَمُ قبولِ التفرقة: سالمیت، ناقابل تقسیم ہونا۔ قَبِيل: ذمہ دار، کفیل، ضامن، قسم، صنف، نوع، قبیلہ، مِنْ هذا القبيل: اس قسم کا، اس جیسا، ایسا، اس پہلو سے۔ مِنْ قَبِيلِ الايضاح: تشریح کے طور پر، بطور مثال۔ مِنْ كُلِّ قَبِيلٍ و دَبِيرٍ: ہر طرح کا۔ لَيْسَ مِن هذا الامر فی قبيلٍ ولا دبير: وہ کم از کم اس معاملہ میں ملوث نہیں ہے، اس کا اس معاملہ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ قَبِيلَة جمع قَبائِل: قبیلہ، قَبَلِي۔ قَبائِلي (قبیلہ کا، قبیلہ کے متعلق) قَبالَة: ذمہ داری، کفالت، ضمانت، معاہدہ۔ تَقبِيل: چومنا، بوسہ لینا، قِبالَ: کے مقابل، کے سامنے، کے بالقابل، دوبدو۔ مُقابَلَة: مڈبھیڑ، مقابلہ، اتفاقی ملاقات، ملاقات، بات چیت، گفت و شنید، بحث مباحثہ، انٹرویو، باریابی، رسمی ملاقات، استقبال، موازنہ۔ مُقابَلَةَ ذلك یا فی مقابلةِ ذلك: کے بدلے، کے عوض، کے مبادلہ میں، کی تلافی میں، کی ہم قیمت کے طور پر، کے لئے تشریحُ المقابلة: تقابلی تشریح (الاعضاء)۔ المقابلة بالمثلِ: بدلہ، پاداش، انتقام، انتقامی کارروائی۔ اخذ بالمقابلة: ادلے کا بدلہ لینا، ترکی بترکی جواب دینا۔ اِقْبال: قریب آنا، آگے بڑھنا، گفت و شنید، ملاقات، آنا، آمد ـ علي: کی طرف مڑنا، متوجہ ہونا، کو تندہی سے کرنا، کا جوابی اقدام، کی اثر پذیری، میں دلچسپی، ـــــ: طلب، مانگ، اچھی قسمت، بہبود، خوشحالی، اِقبالاً و ادباراً: آگے اور پیچھے، ادھر ادھر، اوپر نیچے۔ تَقَبُّل: اخذ کرنے کے استعداد، اثر پذیری، قابلیت، احساس، اقتبال: استقبال۔ استقبال جمع استقبالات: استقبال، پورا چاند، مستقبل۔ استقبالاً: مستقبل میں، آئندہ، آلةُ الاستقبال: ریسور (Receiver)۔ غرفةُ الاستقبال: استقبالیہ کمرہ، ملاقات کا کمرہ، دیوان خانہ، بیٹھک، کان فی اِستقباله: وہ اس کے خیر مقدم کیلئے موجود تھا، وہ اسے ملنے آیا تھا، اس نے اس کا استقبال کیا۔ قابِل: وضع حمل کا ماہر طبیب، آنے والا، آئندہ (ماہ وغیرہ)۔ ـــ ل: کا امکان رکھنے والا، کا مستوجب، سے اثر پذیر، پر آمادہ، رضامند، تیار ـــ: ریسور (ریڈیو) قابلٌ للموت: فانی۔ قابلٌ للشفاء: قابل علاج۔ قابل للالتهاب: آتش گیر، بھڑک اٹھنے والا، قابلٌ للتوصيل: قابل ایصال (برقیات) غيرُ قابلٍ للرجوع: ناقابل تنسیخ، ناقابل واپسی، يكون جوازُ السفر قابلاً للتجديد اربع مرّات: پاسپورٹ چار بار تجدید کروایا جا سکتا ہے۔ قابلة جمع قابلات و قَوابل: دائی، جنائی جمع قَوابِل: ظرف، برتن، وہ چیز جس میں کچھ رکھا جائے جمع قَوابِل: شروعات۔ قابِلِيَّة: صلاحیت، استعداد، طاقت، گنجائش، وسعت، قابلیت، مناسبت، موزونیت، رجحان، شوق، میلان ـ ل: کی طرف رجحان، میلان، کی ذمہ داری، سے اثر پذیری، کا احساس، قابليةٌ للتوصيل: الیصالیت قابلية القسمة: تقسیم پذیری۔ مَقبُول: قابل قبول، معقول، تسلی بخش، خوشگوار، بامروت، خلیق، ملنسار، خوش خلق، بہت پسندیدہ، مرغوب، پسند خاطر، ہر دل عزیز، جس کا خیر مقدم کیا جائے۔ مُقَبِّلات: اشتہاء انگیز اشیاء۔ مُقابِل: سامنے، بالقابل، الثا، الٹ، جوابی، الزامی، ہم قیمت چیز، تنخواہ، معاوضہ، صلہ، جزا، اجرت، تلافی، مُقابلَ ذلك یا فی مقابل ذلك: بدیں وجہ، کے مطابق، کے بدلے، کے عوض، کے مبادلہ میں، کے معاوضہ میں، کے ہم قیمت کے طور پر، کے لئے۔ مقابلَ تقديم الكوبون: کوپن پیش کرنے پر۔ مائة سفينةٍ مقابلُ خمسين فی العام السابق: گزشتہ سال ۵۰ بحری جہازوں کے مقابلہ میں ۱۰۰ بحری جہاز۔ بدون مقابلٍ یا مِن غیرِ مقابلٍ: بلا معاوضہ، مفت، مُقبِل: آنے والا آئندہ (ماہ، سال وغیرہ) فی مُقْتَبَلِ العمر: عنفوان شباب میں مُقتَبَلَ الليل: رات کے شروع میں، رات ہوتے ہی مُستَقبِل: ریسور، ریسیونگ، سیٹ۔ مُستَقبَل: سامنے کا حصہ، ماتھا، مستقبل کا، مستقبل کے متعلق۔ مستقبل (آئندہ زمانہ)

قبن: ا۔ قَبَنَ ـــ قُبُونًا الرجلُ: ملک میں جانا۔ اَقْبَنَ: دشمن سے شکست کھانا، بے خوف تیز دوڑنا۔ القُبُنَّة: ضروریات میں بھاگ دوڑ۔ القَبِين: تیز رو۔

۲۔ قَبَّنَ الشيءَ: کو قبان سے تولنا ـــ ہ بیديه: کو ہاتھ سے تولنا، جانچنا القَبَّان: بھاری چیزوں کو تولنے کا کنڈا یہ لفظ ترکی زبان کے کپان کا معرب ہے۔ القَبَّانِيُّ: بھاری چیزوں کو تولنے والا۔ القِبَانة: تولنے کا پیشہ۔ القُبُونَة: تولنے کا کام۔

۳۔ القَبِين: اپنے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے والا مرد۔

○ قَبَّنَ ہ: آہنی ترازو پر تولنا۔ قَبَّان: آہنی ترازو، ترازو کی ڈنڈی، گاڑیاں تولنے کا پل یا پلیٹ فارم۔

قبو: قَبَا ـُ قَبْوًا البناءَ: عمارت کو بلند کرنا یا گنبد نما بنانا۔ قَبَّى ـ قَبًّا الشيءَ: کسی چیز کو کمان جیسا کرنا۔ قَبَّى تَقْبِيَةً ہ عن الارض: (عمارت) کو تھوڑا سا اونچا کرنا (عامیہ)۔ تَقَبَّى الشيءُ: گنبد جیسا ہونا۔ القَبْوُ: چھپی ہوئی عمارت۔ القَبْوَة: قبا سے اسم مرہ، (ب) مستطیل شکل کا چھوٹا قبہ، پانی کے اوپر سے گزرنے کے لئے پل نما چیز۔

۲۔ قَبَا ـُ قَبْوًا الزعفرانَ: زعفران توڑنا اور جمع کرنا۔ ـــ الشيءَ: کسی چیز کو انگلیوں سے جمع کرنا۔ قَبَا قَبًا الحرفَ: کو ملانا۔ قَبَّى تَقْبِيَةَ المتاعَ: سامان مہیا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا۔ الثوبَ: کپڑے کو قبا بنانا۔ تَقَبَّی القباءَ: قبا پہننا۔ اِقْتَبَی المتاعَ: سامان مہیا کرنا۔ القَباءُ ج اَقْبِیَةٌ: ایک کپڑا جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ یہ گویا قبا الحرف (ملنا ملانا) سے مشتق ہے مولدون اسے قنباز کا نام دیتے ہیں عوام کے نزدیک یہ شیئ قبا (الف مقصورہ کے ساتھ) بمعنی نکمی چیز ہے۔ القَبْوَةُ: دونوں ہونٹوں کا ملنا۔ المَقْبُوُّ (مفع): جمع کیا ہوا، ملا ہوا۔ المَقْبِیُّ: بہت چربی والا۔

۳- قَبَّی تَقْبِیَةً علی فلان: پر ظلم کرنا۔ تَقَبَّی الرجلَ: کے پاس پیچھے سے آنا۔ اِنْقَبَی عنه: سے پوشیدہ ہونا۔

۴- القابُ و القِباءُ: مقدار کہا جاتا ہے۔ بینهما قباءُ قوسین و قابُ قوسین: دونوں کے مابین دو کمانوں جتنی مقدار ہے قریب سے کنایہ۔

قبی: القِبَیُ: مقدار۔ القَبایَةُ: بیابان۔

○ قَبْو جمع اَقْبِیَة: قبہ، گنبد، محراب دار چھت، تہ خانہ، سرنگ، گیلری، زیر زمین راستہ، کان میں افقی راستہ، قبو الوقایة مِن الغارات الجویّة: ہوائی حملہ سے بچنے کی پناہ گاہ۔ قَبْوَة: قبہ، گنبد، محراب دار، چھت، قِباء: فاصلہ۔ قَبا ـُ قَبْوًا ه: کو محراب نما گنبد بنانا، پر محراب دار چھت بنانا، کو محراب بنانا، پر ڈاٹ لگانا۔ کو موڑنا، جھکانا۔ قبودان: کپتان۔

قتّ: ۱- قَتَّ ـُ قَتًّا: جھوٹ بولنا۔ ـ الشیئَ: کسی چیز کو مہیا کرنا۔ ـ النمیمَ فلان و قَتَّ اثر فلان: ارادہ معلوم کرنے کے لئے کسی کے پیچھے پوشیدہ طور پر جانا۔ وقَتَّ الاحادیثَ: سخن چینی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ هو یَقُتُّ الحدیثَ: وہ باتوں میں تزویر و تحسین پیدا کرتا ہے۔ تَقَتَّتَ الحدیثَ: بات کے پیچھے پڑنا، کان لگانا۔ القَتُّ (مص): تیار یا تیار کیا ہوا جھوٹ۔ القَتَّاتُ و القَتُوتُ: چغل خور، بقول بعض لوگوں کی بے خبری میں ان کی باتیں سننے والا خواہ آگے پھیلائے یا نہ پھیلائے۔ اِمْرَأَةٌ قَتَّاتَةٌ و قَتُوتٌ: چغل خور عورت۔ القِتِّیتَی: چغلی۔ رجُلٌ قِتِّیتَی: چغل خور۔ قَوْلٌ مُقَتَّتٌ و مَقْتُوتٌ: جھوٹا قول۔

۲- قَتَّ ـُ قَتًّا الشیئَ: کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا جمع کرنا، کم کرنا۔ قَتَّتَ الافاویهَ: مسالے وغیرہ ہانڈی میں ڈالنا اور پکارنا۔ القَتُّ (ن): اسپست یا خشک اسپست، واحد قَتَّةٌ: ایک قسم کا جنگلی دانہ ہے جس کو دیہاتی لوگ کوٹنے اور پکانے کے بعد کھاتے ہیں۔ القَتَاتُ (ن) ایک قسم کی نباتات۔ زَیتٌ مُقَتَّتٌ: ایک تیل جس میں مختلف خوشبوئیں پکاتے یا خوشبودار تیل ملاتے ہیں۔

۳- قَتَّ ـُ قَتًّا الثوبَ: کپڑے کو لمبائی میں کاٹنا۔ اِقْتَتَّ الشیئَ: کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا۔

○ قَتَّ ـُ قَتًّا ه: کے متعلق غلط بیانی کرنا، کو خلاف واقعہ بیان کرنا، کو نظروں سے گرانا، دل سے اتارنا، حقیر سمجھنا، کو حد سے زیادہ کم کرنا۔ قَتّات: بہتان لگانے والا، غیبت کرنے والا۔

قتب: ۱- قَتِبَ ـَ قَتَبًا ه: کو بھنی ہوئی آنتیں کھلانا۔ القِتْبُ جمع اَقْتاب: آنتیں (مذکر مونث)۔ گول پیٹ القِتْبَةُ: آنتیں۔ القَتَبُ ج اَقْتابٌ: آنتیں۔

۲- اَقْتَبَ البعیرَ: اونٹ پر پالان باندھنا۔ ـ ه یمینًا: کو سخت قسم دینا۔ ه الدَّیْنُ: کو قرض کا گراں بار و بوجھل کر دینا۔ القِتْبُ ج اَقْتابٌ: پالان۔ القَتَبُ ج اَقْتابٌ: کجاوہ، کہا جاتا ہے۔ هُوَ قَتَبٌ یَعَضُّ بالغارِبِ: یعنی وہ بہت زیادہ اصرار کرنے والا ہے۔ القَتِبُ: تنگ خو، جلدی غصے میں آنے والا۔ القَتُوبَةُ: وہ اونٹ جس پر پالان ہو۔ رجُلٌ مُقَتَّبُ الکاهلِ: ٹیڑھے کندھے والا مرد۔

○ قَتَب جمع اَقْتاب: کُب کوہان، کبڑا پن۔ مُقَوتَب: کبڑا۔

قتد: قَتَّدَ القتادَ: قتاد کاٹ کر اس کے کانٹے دور کر کے اونٹوں کو چارہ دینا۔ قَتَّدَ القتادَ: قتاد کے اطراف کو آگ سے جھلس دینا۔ القَتادُ (ن): ایک درخت جس کے کانٹے سوئی کی طرح ہوتے ہیں کہا جاتا ہے مِنْ دون هذا الامرِ خَرْطُ القتادِ: یعنی بڑی ہی مشکل سے یہ حاصل ہو سکتا ہے اور درخت قتاد کا کاٹنا اس سے بہت سہل ہے اور خرط القتاد سے مراد اس کے چھلکے اور کانٹے کو ہاتھوں سے دور کرنا ہے۔ القَتْدُ و القِتْدُ ج اَقْتادٌ و اَقْتُدٌ و قُتُودٌ: کجاوہ کی لکڑی۔

○ قَتاد: کتیرا (گوند) حلیہ Tragacanth جَلَسَ علی قَتادٍ: وہ کانٹوں کی سیج پر بیٹھا تھا۔

قتر: ۱- قَتَرَ ـِ قَتْرًا و قُتُورًا علی عیالهِ: بال بچوں پر نفقہ میں تنگی کرنا صفت قاتِرٌ و قَتُورٌ و اَقْتَرُ۔ قَتَرَ الرجُلُ: کی روزی کا تنگ ہونا۔ قَتَّرَ علی عیالهِ: بال بچوں کے نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ اَقْتَرَ: کا مال کم ہونا۔ ـ علی عیاله: بال بچوں کے نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ اللّٰهُ رزقَهُ: اللہ کا کی روزی تنگ کرنا۔ القَتْرُ (مص): زندگی گزر بسر کرنے کے لئے کافی یا اس سے کم روزی۔ القُتْرَةُ ج قُتَرٌ: تنگ زندگی۔ القاتِرُ و القَتُورُ و الاَقْتَرُ: بخیل جو بال بچوں پر خرچ کرنے میں تنگی سے کام لے۔ التَقَتُّرُ (مص): قابل گزاران روزی۔

۲- قَتَرَ ـِ قَتْرًا و قُتُورًا و قَتِرَ ـَ قَتَرًا البخورُ او اللحمُ: بودار ہونا۔ ـ ت النارُ: دھوئیں والی ہونا۔ قَتَّرَ اللحمُ: گوشت کا بودار ہونا۔ ـ الصیادُ للاسد: شکاری کا شیر کے شکار کے لئے گڑھے میں گوشت ڈالنا۔ ـ الرجُلُ: پکی ہوئی چیز کی بو تیز کرنا۔ ـ الوحشَ: اونٹ کے بال وغیرہ کی دھونی دینا تاکہ شکاری کی بو محسوس کر کے بھاگ نہ جائے۔ اَقْتَرَ النارَ: آگ کو دھوئیں والی کرنا۔ ـ ت المرأة: عود کی دھونی لینا۔ القَتْرَةُ: قَتَرَ کا اسم مرہ۔ القِتْرَةُ: قتر کا اسم نوع۔ القُتارُ: پکی ہوئی چیز کی بھاپ، بخور یا گوشت یا بھنی ہوئی چیز یا جلی ہوئی ہڈی یا عود کی بو۔ لحمٌ قاتِرٌ: گوشت جس میں چکنائی کی وجہ سے بو ہو۔

۳- قَتَرَ قَتْرًا و قُتُورًا الشیئَ: بعض کو بعض سے ملانا۔ ـ الامرَ: کو کرتے رہنا۔ قَتَّرَ الشیئَ: ایک دوسرے کے قریب کرنا۔ اَقْتَرَ الشیئَ: کے قریب رہنا۔ سُرُجٌ قاتِرٌ و مُقْتِرٌ: آرام دہ زین جس سے جس سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ القِتْرُ: تیر کا پھل۔

۴- قَتَرَ ـُ قَتْرًا و قَتَرًا و قُتُورًا مابین الامرین: کا اندازہ کرنا۔

قَتَّرَ مابین الامرین: کا اندازہ کرنا۔ القَتْرُ: اندازہ۔ القِتْرُ: اندازہ۔

۵- قَتَرَ ـُ قَتْرًا و قُتُورًا الدرعَ: زرہ میں میخوں کے سرے بنانا۔ القَتْرَةُ ج قُتَرٌ: زرہ کا حلقہ۔ القَتِیرُ: زرہ کی میخوں کے سرے، زرہ، بڑھاپا یا بڑھاپے کی ابتدا۔

۶- قَتَّرَهُ: کو خاک پر پچھاڑنا۔ القَتَرُ: گرد و غبار۔ القَتَرَةُ: گرد و غبار۔ الاَقْتَرُ: خاکستری رنگ والا۔

۷- تَقَتَّرَ لامرِ کذا: سے نرمی برتنا۔

۸- تَقَتَّرَ: غضبناک ہو کر آمادہ جنگ ہونا۔ ـ للامرِ: کے لئے آمادہ ہونا۔ ـ فلانًا: کو فریب دینے کا ارادہ کرنا۔ ـ للصید: شکار کے لئے قترہ میں چھپنا۔ ـ عنه: سے جدا ہونا۔ تَقاتَرَ القومُ: ایک دوسرے کو فریب دینا۔ اِقْتَتَرَ الصائدُ: قترہ میں چھپنا۔ القُتْرُ و القِتْرُ ج اَقْتارٌ: گوشہ، جانب۔ القُتْرَةُ ج قُتَرٌ: شکاری کا مچان، عام لوگ اسے یلقوم کہتے ہیں۔ ابو قِتْرَةَ: ابلیس کی کنیت۔ اِبْنُ قِتْرَةَ ج بَناتُ قِتْرَةَ (ح): ایک سانپ جس کا ڈسا ہوا انسان بچ نہیں سکتا قترہ ان سب میں غیر منصرف ہے اس لئے کہ مونث معرفہ ہے۔

۹- القِتْرُ: تیر کا نے جو ٹھکانے پر پھینکا جائے۔ القِتْرُ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مغرور، متکبر۔ الـقِترَۃ قِترٌ کا واحد الـقُترَۃ ج قُترٌ: روشندان۔ قُتـرَۃُ البُسُتـانِ: باغ کی نالی۔ قُتـرَۃ البَاب: دروازہ بند کرنے کی جگہ۔

قتع: ۱۔ قَتَـعَ ـَ قُتُوعًا: ذلیل ہونا۔ القَتَعَۃُ: ذلیل کہا جاتا ہے هُـوَا اَقتَعُ مِنہُ: یعنی وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ مونث قَتعَاءُ ج قُتعٌ۔

۲۔ قَاتَعَ مُقَاتَعَۃً ہٗ: سے مقاتلہ کرنا۔ کے ساتھ لڑنا

۳۔ القِتعُ: شہد کا چھتہ جو چٹان میں ہو یا جو ایسے غار میں ہو جو زیادہ گہرا نہ ہو۔ الـقَتَـعُ واحد قَتَـعَۃٌ (ح): ایک سرخ رنگ کا کیڑا جو لکڑی کھاتا ہے بقول بعض دیمک۔

قَتَـعُ السَّاقِ: ایک پروں والا کیڑا جو پھل آور درختوں کے تنوں میں داخل ہو کر انہیں کھوکھلا کر دیتا ہے۔

قتر: قَتَـرَ ـِ قَتـرًا و قُتُورًا و قَتَّر علی: سے کنجوسی کرنا، کے بارے میں کفایت شعار ہونا، کو پیٹ بھر کر کھانا نہ دینا۔ اَقتَـرَ: غریب ہونا یا ہو جانا، قَتـر علی: سے کنجوسی، کفایت شعاری۔ قَتَرۃ: گرد وغبار۔ قُتَار: عطر، خوشبو، مہک، پھولوں کی باس، کسی پکی ہوئی یا بھونی ہوئی چیز کی باس۔ تَقتِیر علی بمعنی قَتر علی، قاتِر و مُقتِر علی: سے کنجوسی کرنے والا، کے بارے میں کفایت شعار۔

قتل: ۱۔ قَتَـلَ ـُ قَتلًا و تَقتَالًا ہٗ: کو مار ڈالنا صفت قَاتِلٌ ج قَاتِـلُونَ و قَتَلَۃٌ و قُتَّالٌ: کہا جاتا ہے۔ قتـلہ بـاخیـہ: یعنی اس نے اسے اپنے بھائی کے انتقام میں قتل کیا اور کہا جاتا ہے۔ قتـلـہ اللہ یعنی اللہ اس پر لعنت کرے اور یہ بد دعا کے موقع پر کہا جاتا ہے اور مقام مدح، ثناء اور استحسان پر بھی بولا جاتا ہے۔ قتَّـل الـقوم: بہت سے لوگوں کو قتل کرنا۔ قَـاتَلَ قِتَـالًا و قِیتَـالًا و مُقَاتَلَۃً ہٗ: سے جنگ کرنا، دشمنی کرنا۔ ــــ ہُ اللّٰہُ: پر لعنت کرنا اور استحسان کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ قَاتَلَہُ اللّٰہُ ما اَشعَرَہُ: مراد اس سے مدح ہے نہ کہ قتل کی بد دعا۔ اَقتَـلَ ہٗ: کو قتل کے لئے پیش کرنا۔ تَـقَـتَّـلَ القوم: باہم ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ تَقَاتَلَ و اِقتَتَـلَ الـقـوم: باہم ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اُستُقتِلَ: قتل ہونے کے لئے سر جھکانا (جیسے اِستَمَاتَ) قتل کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ ــــ فی الامر: کی کوشش کرنا۔ کیلئے جان جوکھوں میں ڈالنا۔ الـقَتلُ (مص) ـ فی المجاز: شدید ضرب۔ القَتلُ العَمدُ: قتل جو مقصود ہو۔ القتلُ الخَطَأ: قتل جو مقصود نہ ہو۔ القِتلُ ج اَقتَالٌ: دشمن، دوست، ہمسر (جنگ وغیرہ میں) نظیر، جنگجو، بہادر کہا جاتا ہے۔ اِنَّہٗ لَقِتلُ شَرٍّ وہ شر کا جاننے والا ہے۔ الـقِتلَۃُ: قتل کا اسم نوع، کہا جاتا ہے۔ قَتَـلَـہٗ قِتلَۃَ سَوءٍ: اس نے اس کو برے طریقے سے قتل کیا۔ القَتَالُ: نفس، قوت، کہا جاتا ہے۔ نـاقۃ ذاتُ قَتـالٍ: یعنی مضبوط اونٹنی۔ الـقَتُـولُ ج قُتُـلٌ و قُتـلٌ: بہت قتل کرنے والا (مذکر و مونث)۔ الـقَتِیـلُ ج قَتلٰی و قُتَلَاءُ و قَتَالٰی: مقتول (مذکر و مونث)۔ الـمَقتَلُ ج مَـقَـاتِـلُ: جسم کا وہ عضو مثلاً کنپٹی کہ جس کو ضرب پہنچنے سے آدمی نہ بچے، قتل کی جگہ، قتل۔ الـمُقَاتِـلَۃ واحد مُقَاتِل: لڑنے والی جماعت، تاء تانیث جماعت کی تاویل کی وجہ سے ہے۔ المُقتَتَل: میدان جنگ۔

۲۔ قَتَل ـُ قَتلًا و تَقتَالًا الخمرۃ: شراب میں پانی ملانا، اسی بنا پر اس شراب کو مقتولہ کہتے ہیں۔ جب اس میں پانی ملا دیا جائے کیونکہ اس کی شدت کم ہو جاتی ہے ـــ الـجـوع او البـردَ: بھوک یا سردی کی تیزی کو ختم کر دینا، کہا جاتا ہے۔ قَتَـلَ غَلِیلَہٗ: یعنی اس نے اسے پلایا اور اس کی تشنگی سیرابی کی وجہ سے زائل ہو گئی، اور کہا جاتا ہے۔ قَتَـلَ الشَّیئَ خبرًا: یعنی اس نے علم کے لحاظ سے اس کا احاطہ کر لیا۔ تَـقَتَّـلَ لِفلان: کے آگے جھکنا، کا فرمانبردار ہونا۔ الـمُـقَتَّـلُ: تجربہ کار، باخبر۔

۳۔ تقتّل للامر: کام آہستہ کرنا۔

۴۔ تقتّل: چلنے میں لچکنا۔

قَتَـلَ ـُ قَتلًا ہ: کو کم کرنا، کی شدت کو گھٹانا، کو ہلکا کرنا، معتدل کرنا، نرم کرنا۔ البردَ: سردی کو کم کرنا، الجوعَ: بھوک کی شدت گھٹانا۔ ـ ہ ب: میں کی ملاوٹ کرنا۔ ـ ہ: کو جاننا، میں کمال حاصل کرنا۔ قَتَـلَہٗ خبرًا او عِلمًا یاقتلہ درسًا و بحثًا: سے خبر یا علم یا مطالعہ اور تحقیق سے پوری طرح واقف ہونا اور کمال حاصل کرنا۔ قَتَـلَ الموضوعَ بحثًا: کسی موضوع کا پوری طرح مطالعہ کرنا، کسی موضوع پر تفصیل سے لکھنا، کہنا یا اسے جامع طور پر پیش کرنا۔ قَتَلَ الدھرَ خِبرۃً: زندگی کا لمبا تجربہ رکھنا، دنیا سے باخبر ہونا۔ قَتَّلَ ھُم: لوگوں کا قتل عام کرنا، لوگوں میں شدید خونریزی کرنا۔ قَـاتَل ہ: سے لڑنا، کے ساتھ یا خلاف لڑنا۔ قَـاتَلَہُ اللّٰہُ: مردود حرامزادہ (لفظی معنی، اللہ تعالیٰ اس سے لڑے)۔ تَـقَـاتَل و اِقتَتَل: ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، جنگ کرنا۔ اِستَـقتَلَ: اپنی زندگی خطرہ میں ڈالنا، موت کی پروا نہ کرنا۔ قَتـــل: قتل کرنا، قتل، خونریزی، قتل عام، مردم کشی، قتل انسانی، خفیہ قتل، انسان کا قتل۔ قتـــل بسبـب: بالواسطہ قتل۔ قتـل الـخطـا: اتفاقی قتل۔ الـقتلُ العَمدُ یا القتلُ العَمدِی یا القتلُ عمدًا یا القتلُ العَمدُ مع سَبقِ الاصرار: پہلے سے سوچا ہوا قتل، عمداً قتل۔ الـقِتـل جمع اَقتـال: دشمن، حریف، مخالف، رقیب، مدمقابل، قَتِیل جمع قَتلٰی: مقتول، جنگ میں مارا گیا شخص، جنگ یا حادثہ کا مقتول۔ قتیلُ الـحـرب: جنگ میں قتل ہونے والا۔ قَتَّـال: قاتل، قاتلانہ، جان لیوا، مہلک، اَقتَـل: تاثیر میں زیادہ جان لیوا یا زیادہ مہلک۔ مَقتَـل: قتل، موت، قاتلانہ جنگ جمع مَـقَـاتِـل: جسم کا عضو رئیسی (جس کا زخم موت کا باعث ہو)۔ ہدف بننے والی غیر محفوظ جگہ۔ ضَربَہٗ فی مَقَاتِلِہٖ یا اصاب منہ المَقتَل: اس نے اس کے انتہائی غیر محفوظ مقام پر ضرب لگائی۔ مَقتَلَۃ جمع مقتلات: خونریزی، قتل عام، تقتیل: خونریزی، قتل عام، قِتَال: جنگ، جدوجہد، جھگڑا، لڑائی۔ ساحۃُ القتال: میدان جنگ، میدان کارزار، لڑائی کا میدان۔ قاتِل: قاتلانہ، جان لیوا، مہلک جمع قُتَّال و قَتَلَۃ: قاتل، قاتِلات: مہلک عوامل (ل: کے خلاف) مُـقَتَّـل: تجربہ کار، مشاق، ماہر، آزمایا ہوا، تجربہ کیا ہوا، جانچا ہوا۔ مُـقَاتِل: لڑنے والا، جنگجو، نبرد آزما، جنگ آزما، لڑائی کا، جنگ کا (مرکب الفاظ میں) مُقَاتِلَۃ: جنگجو لوگ، لڑنے والے، جنگ کرنے والے، لڑنے والی افواج۔ مُقَاتِلَۃ جمع مُقَاتِلات: لڑاکا طیارہ، ہلکا بمبار طیارہ۔ مُـقتَتَـل میدان جنگ، جنگ کا میدان یا علاقہ۔ مُستَقتِل: موت کی پروا نہ کرنے والا، بہادرانہ، ہیرو کا سا۔

قتم: قَتَـمَ ـِ قَتَامَۃً و قُتُومًا: سیاہی مائل ہونا۔ قَتَمَ قُتُومًا وجهُہٗ: کے چہرے کا متغیر ہونا۔ ـــ قُتُومًا و قَتِمَ ـَ قَتَمًا الغبارُ: غبار کا بلند ہونا۔ اَقتَمَ الیوم: بہت غبار والا دن ہونا۔ اِقتَمَّ اِقتِمَامًا الشیئُ: کالا ہونا، سیاہی مائل ہونا۔ الـقَتَـمَ (مص): گرد وغبار۔ الـقُتـمَۃ: خاکستری مائل سرخ رنگ۔ الـقَتَـام والـقَتَمَۃُ: سیاہ گرد وغبار۔ لڑائی کا غبار، تاریکی، سیاہی۔ القَاتِمُ (فا) ج قَوَاتِمُ: کالا، کہا جاتا ہے۔ اَسوَدُ قَاتِمٌ کالا سیاہ اور کہا جاتا ہے۔ مکان قاتم الاعماق: کچھ سیاہی مائل وسیع جگہ۔ الاَقتَمُ: سیاہی مائل، بھورا

قتن: قَتَـنَ ـُ قُتُونًا السمکُ: مچھلی کا خشک ہونا اور اس کی تری کا زائل ہونا۔ قَتُـنَ ـــُ قَتَانَۃً و اَقتَنَ: کم خوراک ہونا، دبلا ہونا۔ الـقَاتِنُ (فا): سیاہی مائل کہا جاتا ہے: اَسوَدُ قَاتِنٌ: بہت سیاہ۔ القَتَانُ و القُتَانُ: سیاہ گرد وغبار۔ القَتِینُ: کم خوراک (مذکر و مونث) دبلا پتلا، باریک نیزہ، ذلیل وخوار، چھچھڑی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

قتو: ا۔ قَتَا ـُ قَتْوًا و قَتًا و قَتِی و قِتِی و مَقْتَی الملوكَ: کی اچھی خدمت کرنا صفت قَاتٍ۔ اِقْتَوَی الرجلَ: سے خدمت لینا (اس کی کوئی نظیر نہیں ہے)۔ القَتْوَۃُ قَتَا سے اسم مرہ۔ المَقْتَی ج مَقْتَوُوْنَ ومَقَاتِوَۃٌ و مَقَاتِیَۃٌ: جو پیٹ بھر خوراک پر خدمت کرے اور اکثر بادشاہ کے خدام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ المَقْتَوِی: بمعنی مَقْتَی۔

۲۔ القَتْوَۃُ: چغلی۔

قتّ: قَتَّ ـُ قَتًّا الشیئَ: کو کھینچنا۔ الابلَ: اونٹوں کو پانی پلانا۔ ـــ قَتًّا و قِتِّیْتَی المالَ: کو بکثرت جمع کرنا۔ القُتَاتُ: سامان کہا جاتا ہے جَاءَ القَوْمُ بِقُتَاتِھِمْ و قُتَاتَتِھِمْ: قوم اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ آگئی۔ القَتَاتَۃُ و القِتِّیْتَۃُ و المَقَتَّۃُ: لوگوں کی جماعت۔

۲۔ قَتَّ ـــ قَتًّا و اِقْتَتَّ الشجرَ. درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔

۳۔ القَتَّاتُ: چغل خور۔

۴۔ قَتْقَتَ قَتْقَتَۃً الوتدَ: کو نکالنے کے لئے حرکت دینا۔ ـ المکیالَ: پورا تولنا۔

قثأ: اَقْثَأَ المکانُ: جگہ کا بہت ککڑی والی ہونا۔ ـ القومُ: لوگوں کے پاس بہت ککڑی ہونا۔ القُثَّاءُ و القِثَّاءُ واحد قُثَّاءَۃ (ن): ککڑی المَقْثَأَۃُ و المَقْثُؤَۃُ ج مَقَاثِیُّ: ککڑی کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ارضٌ مَقْثَأَۃٌ و مَقْثُوَۃٌ: ککڑی والی زمین۔

قثر: تَقَثَّرَ الرجلُ: متردد ہونا، گھبرانا۔ اِقْتَثَرَ الشیئَ: کو گھر کے لئے سامان بنانا۔ القُثْرَۃُ: گھر کا سامان۔

○ قَثَّ ـُ قَثًّا و اِقْتَثَّ ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔

قثم: ا۔ قَثَمَ ـِ قَثْمًا الشیئَ: کو شیر کے پاخانہ سے لتھیڑنا۔ قَثِمَ ـَ و قَثُمَ ـُ قُثْمَۃً و قَثَمًا: شیر کے پاخانہ سے لتھڑنا۔ قُثَامِ (مبنی بر کسرہ) (ح) مادہ بجو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شیر کے پاخانہ سے لت پت کرلیتی ہے۔ اس بناء پر اس کا نام قثام رکھ دیا گیا ہے۔

۲۔ قَثَمَ ـِ قَثْمًا المالَ: بہت مال لینا۔ ـُ قَثْمًا له من المالِ: کو یک بارگی مال دینا۔ اِقْتَثَمَ المالَ: بہت مال لینا۔ ـ الشیئَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ القَاثِمُ (فا): دینے والا۔ القُثَمُ: سخی لوگ۔ القُثَمُ: بہت دینے والا (قاثم سے معدول ہے۔ ـ و القَثُوْمُ: خیر یا شر کا جمع کرنے والا۔

۳۔ قَثَمَ ـُ قَثْمًا فی مشیہ: سست چلنا۔

۴۔ قَثِمَ ـُ قَثَمًا و قَثَامَۃً: گرد آلود ہونا۔ القُثْمَۃُ: خاکستری رنگ۔

۵۔ اِقْتَثَمَ الرجلُ: کو ذلیل کرنا۔

قثو: قَثَا ـُ قَثْوًا و قَثِی یَقْثِی قَثْیًا و اِقْتَثَی المالَ: مال جمع کرنا۔ القَثَا: ایسی چیزوں کا کھانا جس سے کھانے میں آواز نکلے جیسے ککڑی وغیرہ۔

قجّ: القُجَّۃُ: دراہم کے محفوظ کرنے کی تھیلی (عامیہ)۔

○ قَثَاطِیر: پیشاب نکالنے کی نالی قَثْطَرَۃ: پیشاب نکالنے کی نالی۔

قحّ: ا۔ قَحَّ ـِ قُحُوحَۃً و قَحَاحَۃً: خالص ہونا۔ القُحُّ ج اَقْحَاحٌ: خالص کہا جاتا ہے: فلانٌ کریمٌ قُحٌّ و اعرابی قُحٌّ: فلاں خالص کریم اور خالص اعرابی ہے۔ القحۃ مونث القُحَّۃُ: سخت اور بدخو کہا جاتا ہے اعرابیۃ قحۃ: سخت اور بدخو اعرابیہ۔ القُحَاح: خالص۔

۲۔ قَحْقَحَ الصوتُ: آواز کا حلق میں گھومنا۔ القِردُ: بندر کا ہنسنا۔

○ قَحَّ: کھانسنا، کھنکارنا، کھوں کھوں کرنا۔ قَحْبَۃ جمع قِحاب: رنڈی، کسبی، طوائف، بیسوا۔

قحب: ا۔ قَحَبَ ـُ قَحْبًا و قُحَابًا و قَحَّبَ: کھانسنا۔ ـــ سُعَالٌ قَاحِبٌ: سخت کھانسی۔ القَحْبُ: کھانسی والا، سن رسیدہ۔ القَحْبَۃُ۔ جمع قِحَاب ۔ قَحْبٌ کا مونث۔ بڑھیا۔

۲۔ قَحَبَ ـُ قَحْبًا و قُحَابًا و قَاحَبَ و تقَحَّبَتِ المرأۃ: عورت کا بدکار ہونا۔ القَحْبَۃُ ج قِحَابٌ: بدکار، زانیہ۔

قحث: قَحَثَ ـَ قَحْثًا الشیئَ: کل چیز لے لینا۔

قحد: ا۔ قَحَدَ ـَ قُحُدًا و اَقْحَدَ البعیرُ: اونٹ کا بڑی کوہان والا ہونا۔ اِستَقْحَدَتِ الناقۃُ: اونٹنی کا بڑے کوہان والی ہونا۔ القَحَدَۃُ ج قِحَادٌ و اَقْحُدٌ: کوہان یا کوہان کی جڑ۔ ـــ نَاقَۃٌ قَحِدَۃٌ و نَاقَۃٌ مِقْحَادٌ ج مَقَاحِیْدُ: بڑے کوہان والی اونٹنی۔ المَقْحَدَۃُ: کوہان کی جڑ۔

۲۔ القُحَادُ: وہ شخص جس کا نہ بھائی ہو نہ لڑکا۔

قحز: قَحَزَ ـَ قَحْزًا: کودنا، بے چین ہونا، مضطرب ہونا۔ القَاحِزَاتُ: سختیاں۔

۲۔ قَحَزَ ـَ قُحُوْزًا: نیم مردہ کی طرح گرنا۔ ـ قَحْزًا و قُحُوْزًا بہ: کو پچھاڑنا۔ ـــ قَحْزًا و قُحُوْزًا و قَحَزَانًا الرجلَ: کو ہلاک کرنا۔ قَحْزًا ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ قَحَّزَ بہ: کو پچھاڑنا۔ ـ ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ تَقَحَّزَ له الکلام: سے سخت کلامی کرنا۔ القُحَّازَۃُ (مص): پرندوں کے شکار کا جال۔ التَقْحِیْزُ: وعید، دھمکی۔ ـ براٰئی جُوْعٌ مُقْحِزٌ: سخت [illegible]

قحط: ا۔ قَحَطَ ـَ قَحْطًا ہُ: کو سخت مارنا۔ المِقْحَطُ: نہ تھکنے والا گھوڑا۔

۲۔ قَحَطَ ـَ قُحُوطًا المطرُ: بارش رکنا۔ ـَ قَحْطًا و قَحَطًا و قُحُوطًا العامُ: سال کا بے بارش اور خشک ہونا صفت قَاحِطٌ ج قَوَاحِطُ ۔ قَحِطَ ـَ قَحَطًا المطرُ: بارش رکنا۔ ـــ قَحْطًا و قَحَطًا و قُحُوطًا العامُ: سال کا بے بارش اور خشک ہونا صفت قَاحِطٌ ج قَوَاحِطُ ۔ قَحْطًا البلدُ: ملک کا بے بارش اور خشک سالی والا ہونا۔ قُحِطَ قَحْطًا و قَحَطًا و قُحُوطًا العامُ: سال کا خشک ہونا ۔ قَحْطًا البلدُ: ملک کا بے بارش ہونا اَقْحَطَ العامُ: سال کا بے بارش اور خشک ہونا۔ البلدُ: ملک میں بارش رکنا۔ ـ الناسُ: لوگوں کا بے بارش ہونا۔ ـــ اللّٰہُ الارضَ: اللہ کا زمین میں قحط ڈالنا۔ عَامٌ قَحِطٌ و مَقْحُوطٌ: سال جس میں بارش نہ ہو اور خشک سالی رہے عَامٌ قَحِیْطٌ: خشک سال سَنَۃٌ قَحِیْطٌ: خشک سال۔

۳۔ قَحَطَ ـَ قَحْطًا الوَحْلَ و نحوَہ عند العامۃ: کیچڑ وغیرہ ہٹادینا قَحَّطَ القدرَ وغیرھا عند العامۃ: ہنڈیا کے نیچے لگا ہوا کھانا کھرچ ڈالنا، اسم تقحیط القُحَاطَۃُ: (کیچڑ وغیرہ جس کو ہٹا دیا جاتا ہے (عامیہ)۔ المِقْحَطَۃُ: کیچڑ ہٹانے کا آلہ (عامیہ)

۴۔ قَحَّطَ النخلۃَ: درخت خرما میں گابھا دینا۔

○ قَحَطَ ـَ قَحْطًا و قُحوطًا و قَحِطَ ـَ قَحَطًا: بارشوں کا رکنا، نہ برسنا۔ ـ و قُحِطَ: سال کا بے بارش ہونا۔ قَحَّطَ النخلۃَ: کھجور کے درخت پر زرگل چھڑکنا۔ ـــ ہ: کو چھیل کر اتارنا، کھرچ کر اتارنا۔ اَقْحَطَ: سال کا بے بارش ہونا۔ قَحْط: بارش کا نہ ہونا، قحط باران، خشک سالی، قحط، کال، کمی، قلت، احتیاج، قَحْطان: جنوبی عرب کے لوگوں کا روایتی بزرگ۔

قحف: قَحَفَ ـَ قَحْفًا ہُ: کی کھوپڑی کاٹنا یا توڑنا۔ ـ الرُمَّانۃ: انار چھیلنا، چھلکا اتارنا۔ القِحْفُ ج اَقْحَافٌ و قُحُوفٌ و قِحَفَۃٌ: کھوپڑی، کھوپڑی کا وہ حصہ جو ٹوٹ کر جدا ہو جائے، لکڑی کا پیالہ، کہا جاتا ہے۔ رماہ باقحاف رأسہ: اس نے اس پر بڑے بڑے کام ڈال دیئے، اس نے اس کو تباہی میں مبتلا کر دیا اور کہا جاتا ہے فلان مالہ قدّ ولا قِحفٌ: فلاں نہ تو اس کے پاس چمڑے کا پیالہ ہے نہ لکڑی کا یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ قِدّ: چمڑے کے پیالے کو کہتے ہیں۔

۲۔ قَحَفَ ـَ قُحَافًا: کھانسنا ـــ قَحْفًا الشیئَ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بہالے جانا۔ الحبّ: دانے کو بکھیرنا۔ ـــــما فی الاناء: ڈگڈگا کے سب پی جانا۔ اِقتحفَ ـ مافی الاناء: ڈگڈگا کے سب پی جانا۔ ـــــ السیلُ کُلَّ شیئ: سیلاب کا ہر چیز بہالے جانا۔ القَاحِفُ (فا) ج قُحُف: برتن سے سب کچھ نکالنے والا۔ القِحَافُ: ڈگڈگا کے پینا۔ القَحَافُ: بہالے جانے والا سیلاب۔ القَحَافة: ہر وہ چیز جس کو ایک ہی سانس میں پی لیا جائے۔ عَجَاجَة قُحفاءُ: آندھی جو سب چیزوں کو اڑالے جائے۔ المَقحَفَةُ ج مَقَاحِفُ: وہ لکڑی جس سے دانے کو بکھیرا جائے۔

○ قَحَفَ ـ قَحفاً ھ: کونگلنا، ہڑپ کرنا، (دریا کا) کو بہا لیجانا، اِقتَحَفَ ھ: کونگلنا، ہڑپ کرنا، کو دریا کا بہالے جانا۔ القِحف جمع قُحُوف و اَقحاف و قِحَفة: کاسہ سر، کھوپڑی کا استخوانی حصہ۔ قُحاف: تند پرشور (دریا)۔

قحل: قَحَلَ ـ قُحُولاً و قَحِلَ ـ قَحَلاً و قَحَلاً و قُحِلَ الشیئُ: خشک ہونا صفت۔ قَاحِلٌ و قِحلٌ و قَحِلٌ و اِنقَحَل: اس سے ہے۔ قَحَلَ الشَّیخُ: بوڑھے کی ہڈیوں پر کھال خشک ہوگئی اور بہت بوڑھا ہوگیا۔ اور کَیفَ نَرُدُّ شَیخَکُم وَقَدُ قَحَل: ہم تمہارے شیخ کو کیسے واپس کرسکتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ مرگیا اور اس کی کھال خشک ہوگئی۔ اَقحَلَ الشیئَ: کو خشک کرنا کہا جاتا ہے۔ اَقحَلَهُ الصومُ: روزے نے اس کی کھال کو خشک کردیا۔ تَقَحَّلَ الشَّیخ: بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے خشک کھال والا ہونا۔ ـ فی لبوسه وحاله: برے لباس اور حال والا ہونا۔ القَاحِلُ: (فا) ـ من الجلود: خشک کھال۔ القُحَالُ: بکریوں کی ایک بیماری جس سے کھال خشک ہوجاتی ہے۔ القُحُولَة: خشکی۔ المُتقَحِّل من الرجال: خشک کھال والا، بدحال۔ قَاحَل مُقَاحَلَةً ہٗ: کے ساتھ رہنا۔

○ قَحِلَ ـ قَحُلاً و قُحِلَ: خشک ہونا یا ہوجانا، بے برگ وگیاہ اور بنجر ہونا یا ہوجانا۔ قَحَل: خشکی، سوکھا پن، بنجر پن، قاحِل: خشک، سوکھا، بنجر، بے آب وگیاہ۔ قُحُولَة: خشکی، سوکھا پن، بنجر پن۔ قُحلاء: (مونث)۔ خشک قَحِل: خشک، سوکھا، بنجر، بے آب وگیاہ۔

قحم: ۱۔ قَحَمَ ـ قُحُمًا و قُحُومًا فی الامر: کسی معاملہ میں بلاسوچے سمجھے گھس پڑنا۔ ـــــ الیه: کے قریب ہونا۔ ـ قُحمًا المفاوزَ: بیابان طے کرنا۔ قَحَّمَ ہٗ فی الامر: کو معاملہ میں بلاسوچے سمجھے داخل کرنا۔ ـــــ الفرسُ رَاکِبَهٗ: گھوڑے کا سوار کو چہرے کے بل گرانا۔ اَقحَمَ ہٗ فی الامر: کو معاملہ میں بلا سوچے سمجھے داخل کرنا۔ ـ فرسَهُ النهرَ: گھوڑے کو نہر میں زبردستی داخل کرنا۔ الکلمةَ: کسی کلمہ کو دو متلازم کلمے مثلاً مضاف مضاف الیہ کے درمیان داخل کرنا جیسے رِجُل کا لفظ یَدَ اور مَن کے درمیان اس قول میں قطع اللّٰهُ یَدَوَرِجُل مَن قَالَهَا: کیونکہ اصل ترکیب یوں ہے۔ قطع اللّٰه یدمن قالها ورجله اللّٰه یہ کہنے والے کا ہاتھ اور پاؤں کاٹے۔ اُقحِمَ القومُ: قحط سالی کی وجہ سے اپنے مِلک کو چھوڑ کر کسی سرسبز و شاداب جگہ میں چلے جانا۔ تَقَحَّمَ الفرسُ النهرَ: گھوڑے کا نہر میں داخل ہونا، گھسنا۔ ـــــ الامرَ: کسی معاملہ میں اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ ڈال دینا۔ ـ الفرسُ براکبه: گھوڑے کا سوار کو چہرے کے بل گرانا۔ اِقتَحَمَ: معنے کے لحاظ سے اقحم کا فعل لازم ہے۔ اِقتَحَمَ الامرَ: کسی معاملہ میں اپنے آپ کو شدت اور مشقت کے ساتھ ڈال دینا۔ ـ المنزلَ: میں ہجوم کرنا۔ النجمُ: ستارے کا غروب ہونا۔ اِنقَحَمَ: بے سوچے سمجھے گھس پڑنا۔ القَحمُ: مونث قَحمَةٌ ج قِحَام: بہت بوڑھا۔ القُحمَةُ ج قُحَمٌ: مشکل کام، ہلاکت، بے سوچے سمجھے سفر کو چل پڑنا، قحط۔ ـــــ القُحَمُ فی الخصُومَاتِ: وہ جو انسان کو مکروہات پر برانگیختہ کرے، کہا جاتا ہے۔ لِلخُصُومَةِ قُحَمٌ (جھگڑے کے لئے خطرات میں کودنا پڑتا ہے) اور القُحَمُ من الشهر: مہینے کی آخری تین راتیں، کیونکہ ان میں چاند سورج کے قریب نہیں ہوتا۔ قُحَمُ الطرِیقِ: راستہ کی دشواریاں۔ القَحَامَة و القُحُومَة: بہت بڑھاپا۔ القَحُوم: بہت بوڑھا۔ المِقحَامُ ج مَقَاحِیمُ: القاحم سے اسم مبالغہ وہ شخص جو سخت مصیبتوں میں گھس پڑے۔ المَقَاحِمُ: ہلاکتیں اس کا مفرد قُحمَة ہے لیکن یہ لَمحَة کی جمع مَلَامِحُ کی طرح خلاف قیاس ہے۔

۲۔ اِقتَحَمَ فلانًا: سے حقارت کرنا، کہا جاتا ہے اِقتَحَمَتهُ عَینِی: میری آنکھوں نے اس کو ذلیل سمجھا۔ القَحمُ مونث قَحمَة ج قِحَام: دبلا۔ المُقحَمُ: کمزور۔

۳۔ المُقحَمُ: وہ اعرابی جس کی پرورش جنگل میں ہوئی ہو۔

○ اَقحَمَ ہٗ فی: میں دھکیلنا، گھسیٹنا، کھینچنا، مبتلا کرنا۔ ـ ھ فی: کو میں بھرنا، کو میں زبردستی ڈالنا۔ اَقحَمَ نفسَهُ بینهم: خود کو لوگوں کے درمیان بھینچ کر پہنچانا۔ اِقتَحَمَ ھ: میں زور سے گرنا، کود پڑنا، اندھا دھند کود پڑنا، میں زور سے داخل ہونا، زبردستی گھس آنا، پر چڑھائی کرنا، چڑھ دوڑنا، حملہ کرنا، حملہ آور ہونا، میں غائب ہوجانا، پر تیر کی طرح جھپٹنا، بلہ بولنا، پر ایک دم سے دھاوا کرکے قبضہ کرلینا، (خطرہ، مشکلات) کی پرواہ نہ کرنا۔ قُحمَة جمع قُحَم: جوکھوں والا کام۔ مِقحام جمع مَقَاحِیم: بے توجہی سے خطرہ میں کود پڑنے والا، غیر محتاط، نڈر، بے باک، بے وقوف، جیالا۔

قحو: قَحَا ـ قَحوًا الدواءَ: دوا میں گل بابونہ ڈالنا۔ و اِقتَحَى المالَ: کل مال لے لینا۔ اَقحَت الارضُ: زمین کا گل بابونہ اگانا۔ الفُحوَانُ و الاُقحُوَانُ: گل بابونہ، واحد قُحوَانَة و اُقحُوَانَةٌ ج اَقَاحِیُّ و اقاحٍ: اس کی تصغیر اُقَیحِیَانٌ ہے اور اس کا واحد اُقَیحِیَانَة ہے (ن) ایک پودا جس کے سفید پھول اور اس کے پھولوں کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ انہیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے دانتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو بابونہ کہتے ہیں۔ اَقَاحِی الامرِ: کام کے اوائل۔ المِقحَاة: پھاوڑہ۔

○ اُقحُوان جمع اَقَاحٍ و اَقَاحِی: بابونہ، گل بہاری، ڈیزی (daisy)

قد: قَدُ: مندرجہ ذیل معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ۱۔ بمعنی حَسبُ جیسے قَدُزَیدٍ دِرهَمٌ یعنی زید کے لئے ایک درہم کافی ہے اور قَدِیُ دِرهَمٌ: بغیر نون وقایہ کے جیسے حَسبِی دِرهَمٌ: ۲۔ اسم فعل بمعنی کَفی یا یَکفِی جیسے قَدنِی دِرهَمٌ بمعنی یَکفِینِی دِرهَمٌ: ان سب صورتوں میں قَدُ اسم ہے، ۳۔ مضارع کے ساتھ توقع کا فائدہ دیتا ہے جیسے قَد یَقدِم الغائِبُ الیَومَ توقع ہے کہ غائب آج آجائے اور کبھی تقلیل کا جیسے قَد یَصدُقُ الکَذُوبُ جھوٹا آدمی کبھی سچ بول لیتا ہے اور ماضی کے ساتھ تحقیق کا فائدہ دیتا ہے جیسے قَدافلَحَ مَنِ اتقی اللّٰهَ جو اللہ سے ڈرا اس نے یقیناً فلاح پائی قرآن میں ہے قَدافلَحَ مَن زَکاهَا، قَد افلَحَ المُؤمِنونَ اور حال سے قریب کرنے کے لئے جیسے قَد قَامَ فُلَانٌ جبکہ قیام زمانہ قریب میں ہی ہوچکا ہو اور مضارع کے ساتھ تکثیر کا فائدہ دیتا ہے جیسے قَد اشهَدُ الغارَةَ الشَعوَاءَ تَحمِلُنِی: مراد یہ ہے کہ میں لوٹ میں بہت حاضر ہوا کرتا ہوں۔

قدّ: ۱۔ قَدَّ ـ قَدًّا الشیئَ: کو جڑ سے کاٹنا، لمبائی میں پھاڑنا یا کاٹنا، تم کہتے ہو قَدَدتُ الشیئَ نِصفَینِ: اور کبھی مفعول ثانی پر حرف جار با کی زیادتی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قددت الشیئ بنصفین ـ قَدَّ المسافر الفلاةَ: بیابان طے کرنا۔ ـــــ الکلامَ: بات کاٹنا۔ قُدَّ: پیٹ درد والا ہونا۔ ـ فلان قَدَّ السیف: فلاں کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اچھے طریقے سے کاٹنا۔ قَدَّ الشیئَ: کو جڑ سے کاٹنا، لمبائی میں پھاڑنا یا کاٹنا۔ — اللحمَ: کے ٹکڑے کرنا اور اسے خشک کرنا۔ تَقَدَّدَ: پھٹنا۔ الشیئُ: خشک ہونا۔ — الثوبُ: کٹ جانا اور پرانا ہونا۔ — القوم: متفرق ہونا مختلف الرائے فرقے ہونا۔ — الثوبُ علیه: کپڑے کا اندازہ اور طول کے مطابق ہونا۔ اِقْتَدَّ — الشیئَ: بمعنی قَدَّہٗ۔ الشیئُ: پھٹنا — الامورَ: کی تدبیر کرنا، تمیز کرنا۔ اِنْقَدَّ: پھٹنا۔ اِسْتَقَدَّ الامرُ: برابر ہونا۔ القَدُّ (ح): ایک سمندری مچھلی جس کی ایک قسم سے تیل نکالا جاتا ہے۔ القَدُّ (مص) ج اَقُدٌّ و قُدُودٌ و قِدَادٌ و اَقِدَّةٌ: کوڑا یا چابک، بکری کے بچہ کی کھال، آدمی کی قامت، اور اعتدال مقدار کہا جاتا ہے۔ هٰذا علی قَدِّ ذاكَ یعنی یہ اس کی مقدار کے مطابق ہے۔ (ـــو) عوامی گیتوں کے وزن پر صحیح الاعراب فصیح کلام ترتیب دینا۔ القِدُّ ج اَقُدٌّ: چمڑے کا برتن، تسمہ، کاٹی ہوئی چیز، چابک، — کہا جاتا ہے مَالَهٗ قِدٌّ ولا قِحفٌ یعنی نہ تو اس کے پاس چمڑے کا برتن ہے اور نہ لکڑی کا جو کنایہ ہے اس بات سے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ القِدَّةُ ج قِدَدٌ و اَقِدَّةٌ: چمڑے کا تسمہ، چیز کا ٹکڑا، مختلف الرائے فرقہ کہا جاتا ہے۔ کنا طرائق قِدَدًا یعنی ہم مختلف الرائے فرقے تھے۔ — عند الکُتّاب: چپٹی، رول، رولر (ruler) عند البنائین و النجارین: ناپنے کی چپٹی۔ القُدادُ: پیٹ کا درد۔ القَدِیدُ: کاٹا ہوا اور خشک کیا ہوا گوشت، پرانا کپڑا۔ القُدَیدُ: چھوٹا ٹاٹ۔ القِدِیدیُّونَ: فوج کے توابع جیسے درزی نائی وغیرہ۔ بعض کے نزدیک یہ لفظ تقدد سے ہے اور معنی ہے فوج کے وہ ماتحت جو ملک میں اشد ضرورت کیلئے بکھر جاتے ہیں اور ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ المَقَدُّ: راستہ، ہموار جگہ۔ المِقَدُّ و المُقَدُّ و المِقَدَّةُ: کاٹنے کی چھری۔ المَقْدُودُ: دبلا، کمزور (عامیہ)

۲۔ اِسْتَقَدَّ الامرُ: ہمیشہ ہونا۔

۳۔ القَدَادُ (ح) الیَربُوع جنگلی چوہا، (ح) سیہی۔

○ قَدْ: فعل سے پہلے آتا ہے، کام کی تکمیل پر دلالت کرتا ہے کبھی اب سے پیشتر، قبل ازیں یا پہلے، پہلے ہی سے کے معنی دیتا ہے، مضارع پر آئے تو کبھی کبھی، کبھی کبھار، گاہے گاہے، بعض اوقات اور شاید ممکن ہے، سکنا، غالبًا وغیرہ کے معنی دیتا ہے۔ قِدٌّ جمع اَقُدٌّ: (چمڑے کا) لمبا ٹکڑا یا چوڑی پٹی، تسمہ، فیتہ، قِدَّۃٌ جمع قِدَدٌ: پٹری، مسطر، رولر۔ تفرقوا طرائق قِدَدًا: کئی حصوں یا گروہوں میں بٹ جانا، کا اجتماع ختم ہونا،

ٹوٹنا۔ قَدِید: گوشت کے لمبے ٹکڑے جنہیں نمک لگا کر سکھا لیا گیا ہو۔ — علی قَدِّه: اسی قامت، قد، ضخامت، حجم کا، یکساں ضخامت کا، اتنا ہی بڑا۔

قدح ۱۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا فی عِرضه: کو طعنہ مارنا، پر عیب لگانا، میں نقص نکالنا، کہا جاتا ہے۔ قَدَحَ فی ساقِ اخیه: اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا۔ قادَحَهٗ و تَقادَحَا: ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا یا مناظرہ کرنا۔
المِقْدَحُ: لوگوں میں خفیہ سازشیں کرنے والا (عامیہ)۔

۲۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا الدودُ فی الاسنان او الشجر: دانت یا درخت میں کیڑا لگنا۔ القَدْحُ (مص): دانت یا لکڑی کا کیڑا۔ القادِحُ (فا): دانت یا درخت کی سیاہی یا کیڑا۔ لکڑی میں شگاف۔ القادِحَة ج قَوادِحُ القادح کا مونث (ح) درخت یا دانت کا کیڑا۔

۳۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا فی القِدحِ: تیر کے پھل میں سوراخ کرنا اور عوام اسے سوراخ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ — ختام الخابیة: مٹکے کی مہر کو توڑ دینا۔ الطبیبُ العینَ: آنکھ کے اندرونی حصہ سے پانی نکالنا۔ — ت العینُ: آنکھ کا دھنس جانا۔ قَدَحَ ت العینُ: آنکھ کا دھنس جانا — الفرسَ: گھوڑے کو دبلا کرنا۔ القِدْحُ ج قِداحٌ و اَقْدُحٌ و اَقْداحٌ وقِدْحانٌ جج اَقادِیحُ: بغیر پر اور نصل کے تیر، سوراخ (عامیہ)۔

۴۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا الشیئَ: کا چلو لینا۔ المَرَقَ: شوربا نکالنا۔ — القِدرَ: ہانڈی کی چیز چمچہ سے نکالنا۔ اِقْتَدَحَ المَرَقَ: شوربا نکالنا۔ القِدرَ: ہانڈی میں جو کچھ ہو چمچہ سے نکالنا۔ القُدحَة من المَرَقِ: چمچہ بھر شوربا۔ القَدِیحُ: شوربا یا وہ جو ہانڈی کی تلی میں رہ جائے اور مشکل سے چمچہ سے نکلے۔ المِقْدَحُ والمِقْدَحَة: چمچہ۔

۵۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا بالزَّند: چقماق سے آگ نکالنے کی کوشش کرنا کہا جاتا ہے قَدَحَ الشیئُ فی صدری یعنی چیز نے میرے سینے پر اثر کیا، اور کہا جاتا ہے اِضِی لی اَقْدَحْ لکَ: یعنی تم میرے لیے ہو جاؤ میں تمہارے لئے ہو جاؤں گا۔ اِقْتَدَحَ بالزَّند: چقماق سے آگ نکالنے کی کوشش کرنا — الامرَ: معاملہ کی تدبیر کرنا۔ اِسْتَقْدَحَ زِنادَهٗ: چقماق سے آگ نکالنا۔ القَدَّحُ: اقتداح النار کا اسم۔ القُدحَة قدح کا اسم نوع۔ حُمّیٰ قادِحَةٌ: بہت تیز بخار۔ القَدّاحَة: چقماق کا پتھر، لائٹر۔ القَدّاحُ: چقماق کا لوہا [illegible]

لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ چقماق اور سٹیل، لائٹر۔ الاقدَحُ و القَدُّوحُ (ح): مکھی۔ المِقْدَحُ والمِقْداحُ: چقماق کا لوہا۔

۶۔ القِدحُ ج قِداحٌ و اَقْدُحٌ و اَقْداحٌ و قِدْحانٌ جج اَقادِیحُ: جوئے کا تیر، کہا جاتا ہے۔ صَدَقَهم وَسْمَ قِدحِه: یعنی ان سے سچ کہا۔ القَدَحُ ج اَقْداحٌ: پینے کا برتن، چھوٹے اور بڑے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور قَدَحٌ خالی برتن کو کہتے ہیں اور جب اس میں پینے کی کوئی چیز ہو تو اس کو کاس کہتے ہیں کہا جاتا ہے لاتجعلونی کقدح الراکب: یعنی مجھ کو آخری مت بناؤ اس لئے کہ سوار سارے سامان کو رکھنے کے بعد پیالہ کو آخر میں لٹکاتا ہے۔ القدحُ الفرْدُ: یہ کنایہ ہے لے پالک سے۔ القِداحة: پیالہ بنانے کا پیشہ۔ القَدّاحُ: پیالہ بنانے والا، پیالہ پکڑنے والا۔ تر و تازہ پودے کے اطراف، نباتات کے شگوفے (کھلنے سے پہلے)۔

۷۔ اِقْدَحَرَّ اِقْدِحْرارًا الرجلُ: شرارت، گالی گلوچ یا لڑائی کے لئے تیاری کرنا۔

○ قَدَحَ ـَ قَدْحًا فی: میں سوراخ کرنا، کو چیرنا۔ — فی: کسی شخص پر بہتان باندھنا، کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، پر تہمتیں دھرنا، کو بدنام کرتے پھرنا، کو ڈانٹنا، جھڑکنا، برا بھلا کہنا، کی عیب جوئی کرنا، کو قصور وار ٹھہرانا، (گواہ، گواہی) کو قابل اعتراض قرار دیکر مسترد کرنا۔ — فی / ب: کو نقصان پہنچانا، کی قدر و قیمت گھٹانا، کو بے وقعت کرنا، حقیر سمجھنا، گھٹا کر بتانا، برے لفظوں میں بیان کرنا، کم کرنا، نگاہوں سے گرانا۔ — فی / ب: کے نام کو بٹہ لگانا۔ — فی: کی خلاف ورزی کرنا، سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، (قانون) شکنی کرنا۔ قَدَحَ و قَدَحَ النارَ: چقماق سے آگ جلانا۔ قَدَحَ زِنادَ الفکر: بغور سوچنا، دماغ پر بہت زور دینا۔ قَدَحَ فِکْرَهٗ: سخت غور کرنا۔ قَدَحَ شَرَرًا: چنگاریاں نکالنا۔ اِقْتَدَحَ و اقتدح النارَ: چقماق سے آگ جلانا۔ — ہ کی اہمیت یا قدر و قیمت کا اندازہ کرنا، پر غور کرنا۔ قِدحٌ جمع قِداحٌ و اَقْدُحٌ و اَقادِیحُ: تیر کا ڈنڈا، تیر، غیب دان تیر، حکمی فال کا تیر۔ قَدْحٌ: غیبت، بدگوئی، بہتان، جھوٹا الزام، افترا، رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی، تذلیل، بدنامی، الزام، کلنک کا ٹیکہ، ڈانٹ، سرزنش، زجر و توبیخ، الزام، ملامت، لعن طعن۔ — (فی / ب): بے قدری، ہتک، تحقیر، رسوائی، خفت۔ قَدَحٌ جمع اَقْداحٌ: پینے کا پیالہ، پیالی، جام، ساغر، گلاس، چائے کا گلاس، خشک اشیاء

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ناپنے کا پیمانہ۔ قَدَّاح و قَدَّاحَة جمع قَدَّاحات: چقماق، لوہا یا فولاد جسے چقماق سے انگاریاں نکالنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، چقماق اور فولاد، (سگریٹ) لائٹر مِقْدَحَه: لوہا یا فولاد جسے چقماق سے انگاریاں نکالنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ له القِدحُ المُعلّی فی: کیلئے فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہونا۔

قدر: ۱۔ قَدَرَ ـِـ قَدْرًا و قُدْرَةً و مَقْدِرَةً و مَقْدَرَةً و مَقْدُرَةً و مِقْدَارًا و قَدَارَةً و قُدُوْرَةً و قُدُوْرًا و قِدْرَانًا و قَدَارًا و قِدَارًا علی الشیئ: پر قوی ہونا۔ ــــ قَدْرًا و قَدَرًا علی الشیئ: پر قدرت رکھنا، کو جمع کرنا، روکنا۔ ــــ اللّٰهَ: اللہ کی تعظیم کرنا۔ قَدِرَ ـَ قَدْرًا و قُدْرَةً و مَقْدِرَةً و مَقْدَرَةً و مَقْدُرَةً و مِقْدَارًا و قَدَارَةً و قُدُوْرَةً و قُدُوْرًا و قِدْرَانًا و قَدَارًا و قِدَرًا علی الشیئ: پر قوی ہونا۔ و ــــ قَدَرًا علی الشیئ: پر قدرت رکھنا۔ قَدَّرَ علی الشیئ: پر قدرت رکھنا، کو جمع کرنا، بند کرنا۔ ــــ اللّٰهُ فلانًا علی کذا: اللہ کا کسی کو پر قادر بنانا۔ قَادَرَ مُقَادَرَةً ہٗ: کا توانائی میں مقابلہ کرنا۔ اَقْدَرَ اللّٰهُ فلانا علی کذا: اللہ کا کسی کو پر قادر بنانا۔ ــــ الانسانُ: ہانڈی میں پکانا۔ اِقْتَدَرَ علیه: پر قوی ہونا، قدرت پانا۔ ــــ الرجُلُ: ہانڈی میں پکانا۔ القَادِرُ (فا): مونث قَادِرَةٌ: ہانڈی میں پکانے والا، ہانڈی کا پکا ہوا کہا جاتا ہے۔ بیْنَنَا لَیْلَةٌ قَادِرَةٌ: ہمارے درمیان ایسی رات ہے جس میں چلنا آسان ہے۔ القَدْرُ ج اَقْدَارٌ: طاقت و قوت، مالداری، تونگری، عزت و وقار، حالت القِدْرُ ج قُدُوْرٌ اور اس کی تصغیر قُدَیْرَةٌ و قُدَیْرٌ: ہنڈیا۔ القَدَرُ ج اَقْدَارٌ: طاقت و قوت۔ القُدْرَةُ: فعل یا ترکِ فعل کی طاقت۔ قُدْرَة آلَةٍ مَا: سیکنڈ میں کام کی مقدار بتانے والا آلہ۔ القُدَارُ: ہنڈیا میں پکانے والا۔ القَدَارُ و القِدَارُ: قدرت۔ القَدَارَةُ والقُدُوْرَةُ: (دونوں مصدر ہیں) قوت، اقتدار، مالداری، الاَقْدَرُ: اسم تفضیل، مونث القَدْرَاءُ۔ بَنُوْ قَدْرَاء: مالدار لوگ۔ القَدِیْرُ: صاحبِ قدرت، اللہ تعالیٰ کا نام، ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت۔ المِقْدَارُ ج مَقَادِیْرُ: قدرت۔ المَقْدَرَةُ و المَقْدُرَةُ و المَقْدِرَةُ: قوت، مالداری۔ المُقْتَدِرُ (فا): ہنڈیا میں پکانیوالا۔ المَقْدُوْرُ (مفع): کہا جاتا ہے۔ امرٌ مقدورٌ علیه: یعنی ایسا امر جس کے کرنے پر انسان قادر ہو۔

۲۔ قَدَرَ ـِ قَدْرًا الشیئَ بالشیئ: کوئی مقدار کے مطابق کرنا، کا سے اندازہ کرنا۔ ــــ الامرَ: کی تدبیر کرنا۔ ــــ لأمرِ کذا: پر غور و فکر کرنا، کی تدبیر کرنا، کا قیاس کرنا۔ قَدَّرَ الشیئَ بالشیئ: کا سے اندازہ کرنا، مقدار کے مطابق بنانا۔ ــ الرجُلُ: معاملہ کی درستی اور تدبیر میں غور و فکر کرنا۔ قَادَرَ مُقَادَرَةً ہٗ: کا اندازہ کرنا، کا توانائی میں مقابلہ کرنا۔ ــــ بین الشیئین: ایک کا دوسرے سے مقدار معلوم کرنے کے لئے اندازہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ یُقَادِرُنی: فلاں میرے ساتھ مساوات کا طالب ہے۔ تَقَدَّرَ الثوبُ علیه: کپڑے کا کی مقدار کے مطابق ہونا۔ تَقَادَرَ الرجُلان: ہر ایک کا دوسرے سے مساوات کا طالب ہونا۔ اِقْتَدَرَ الشیئَ بالشیئ: کا سے اندازہ کرنا۔ اِنْقَدَرَ: اندازہ کے مطابق ہونا، کہا جاتا ہے۔ قَدَرْتُ الثوبَ فانْقَدَرَ: میں نے کپڑے کا اندازہ کیا تو وہ اندازے کے موافق ہوگیا۔ القَدْرُ (مص) ج اَقْدَارٌ: چیز کی انتہا، چیز کا بغیر کمی و زیادتی کے دوسری کے برابر ہونا کہا جاتا ہے۔ هٰذَا قَدْرُ ذاك: یہ اس کے مماثل اور مساوی ہے۔ القَدَرُ (مص) ج اَقْدَارٌ: چیز کی انتہا۔ التَقْدِیْرُ (مص) ج تَقَادِیْرُ عند النحاة: کلمہ کو حذف کرنا اور نیت میں باقی رکھنا جیسے اگر آپ سے کہا جائے: مَنْ مَعَكَ؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ جواب دیں اَخِیْ: میرا بھائی تو اس میں مَعِیَ کا لفظ لفظوں میں محذوف ہوگا۔ المِقْدَارُ ج مَقَادِیْرُ: چیز کی انتہا، ایک معروف پیمانہ جس سے کسی چیز کی گنتی، پیمائش یا وزن کا پتہ چل جائے۔ المُقَدِّرُ: درختوں یا کھیتی کی مقدار کا تخمینہ لگانے والا (عامیہ)۔

۳۔ قَدَرَ ـِـ قَدْرًا و قَدَرًا الرزقَ: کو تقسیم کرنا۔ ــ اللّٰهُ علیه الامر: کا فیصلہ کرنا، حکم لگانا۔ ــ علی عیاله: اہل و عیال پر نان و نفقہ میں تنگی کرنا۔ ــ قَدَارَةً الشیئَ: کو تیار کرنا، کا وقت متعین کرنا۔ قَدَّرَ اللّٰهُ علیه الامرَ و قَدَّرله الامرَ: کا فیصلہ کرنا حکم لگانا۔ ــ علی عیاله: پر تنگی کرنا۔ تَقَدَّرَ له کذا: کے لئے آمادہ ہونا۔ اِسْتَقْدَرَ اللّٰهَ خیرًا: خدا سے نیکی کا حصہ مانگنا۔ لیلةُ القدر: ماہ رمضان کی آخری دس راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات مثلاً پچیسویں رات، ستائیسویں رات وغیرہ۔ القَدَرُ ج اَقْدَارٌ: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کے متعلق فیصلہ اور حکم لگانا۔ تقدیر الٰہی، ارادہ کا تعلق اشیا کے ... ان کے اوقات میں القَدَرِیَّةُ: ایک جماعت جو تقدیر الٰہی کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بندے اپنے افعال اختیاریہ کے خود خالق ہیں اور جبریہ اس کے برعکس ہے۔ التَقْدِیْرُ ج تَقَادِیْرُ: تقدیر الٰہی۔ ــ عند المتکلمین: ہر مخلوق کو اس کے اندازہ کے مطابق کرنا۔ المَقْدُرَةُ: قضاء و قدر۔ المَقْدُوْرُ (مفع): فیصلہ شدہ معاملہ۔

۴۔ قَدِرَ ـَ قَدَرًا: چھوٹی گردن والا ہونا۔ القَدَرَةُ: چھوٹی شیشی۔ الاَقْدَرُ: پستہ قد بقول بعض کے نزدیک چھوٹی گردن والا۔

۵۔ القَدْرُ ج اَقْدَارٌ: کندھے کا سرا۔ القُدَار: درمیانہ قد مرد ــ (ح): بڑا اژدہا، چست و چالاک لڑکا۔ القَدَّارُ: پتھر جو پانی بہنے کی جگہ پر لگایا جائے۔ القَدْرَاءُ: کان نہ بڑا نہ چھوٹا۔ المُقْتَدِرُ: کام کا ساتھی، ہر چیز کا وسط کہا جاتا ہے۔ رجلٌ مُقْتَدِرُ الطُول: درمیانہ قامت کا مرد۔ المُقَادَرَةُ: تنگ مکان۔ المُقَدَّرُ: ایک پٹی جسے عورت تزئین و آرائش کیلئے لگاتی ہے (عامیہ)۔

☆ قَدَرَ ـِـ قَدْرًا ہ: اللہ تعالیٰ کا کو مقسوم میں لکھ دینا۔ ــِ قُدْرَةً و مَقْدُرَةً و مَقْدَرَةً و مَقْدِرَةً و قَدِرَ ـَ قَدَرًا: طاقت، قابلیت یا اختیار رکھنا۔ ــ علی: پر قابو رکھنا، کا ماہر ہونا، کے مساوی ہونا، کے قابل ہونا، کچھ کرنے کا امکان رکھنا۔ ــ علی/ان: کچھ کرنے کے قابل ہونا، کی پوزیشن میں ہونا، کا اہل ہونا، کو کرنے جوگ ہونا، کو کر گزرنے والا ہونا۔ قَدَّرَ ہ علی: اللہ تعالیٰ کا کچھ کسی کے لئے مقرر کرنا، مقدر کرنا، ٹھہرانا۔ ــ ہ: اللہ تعالیٰ کا کچھ مقدر کرنا، کا پہلے سے فیصلہ کر دینا، مقرر کرنا۔ ــ ہ: کا اندازہ کرنا، کو جانچنا۔ ــ ہ ب: کا اتنا اندازہ لگانا، کی اتنی تشخیص کرنا، پر اتنا ٹیکس لگانا، کو اتنا شمار کرنا، کی قیمت کا اتنا اندازہ کرنا۔ ــ ہ: متوقع چیز کا اندازہ کرنا، کو پہلے سے بھانپ لینا۔ ــــ ان: قیاس آرائی کرنا کہ، فرض کرنا کہ، قیاس کرنا کہ، یقین کرنا کہ، خیال کرنا کہ، کی رائے ہونا کہ۔ ــ ہ/ ہ: کی توقیر کرنا، احترام کرنا، کی قدر کرنا، کو عزیز رکھنا، کی بڑی قدر کرنا، کو آنکھ کا تارا سمجھنا۔ ــ ہ ل: کی میں توقیر کرنا، قدر کرنا، بڑی قدر کرنا، کو میں عزیز رکھنا، آنکھ کا تارا سمجھنا۔ ــــ ہ علی: کو کچھ کرنے کا قابل بنانا، کو کچھ کرنے کا اختیار یا طاقت دینا، مجاز بنانا۔ لاقَدَّرَ اللّٰه: اللہ نہ کرے۔ قُدِّرَ فَكَانَ: ہو کر رہنے والا ہوگیا۔ قَدَّرَہ حَقَّ قَدْرِہٖ: کی صحیح قدر کرنا، کی قدر و قیمت، کی داد دینا۔ (یہاں ضمیر منصوب شخص یا چیز کے لئے ہے) لا یُقَدَّرُ: بے انداز، بے حد، بہت ہی، انمول، لامحدود، بہت ہی بڑا۔ ــــ اَقْدَرَہ علی: کو کچھ کرنے کے قابل بنانا، کو کچھ کرنے کی پوزیشن میں کرنا۔ تَقَدَّرَ: مقرر ہونا، معین ہونا، ٹھہرایا جانا۔ مقسوم میں لکھا جانا، مقدر ہونا، تقدیر کا لکھا ہونا، فیصلہ سنایا جانا اِقْتَدَرَ: بمعنی قَدَرَ یَقْدِرُ۔ استقدرہٗ: اللہ سے طاقت یا صلاحیت طلب کرنا۔ قَدْر جمع اَقْدَار: حد، گنجائش، مقدار، کمیت،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

شمار، گنتی، عدد، تعداد، پیمانہ، شرح، رقم درجہ، قیمت، مسلمہ حیثیت، رتبہ، خدائی حکم۔ لیلۃُ القدر: سورۃ ۹۷ کے مطابق وہ رات جس میں قرآن مجید کی وحی ہوئی، یہ رات ۲۶ اور ۲۷ ماہ رمضان کی درمیانی رات کو بتائی جاتی ہے۔ قدرٌ مِن: کی کوئی حد، کا کوئی درجہ۔ قَدْرَ، بِقَدْرِ، علیٰ قَدْرِ: کے حسب حال، کے مناسب، کے مطابق، کے تناسب سے بَقَدْرِ ما: کی حد تک، علی قَدْرٍ ما: کسی حد تک، نسبۃً۔ قَدْرَ المُستطاع، بقدرِ المستطاع علی قدرِ المستطاع، قَدْرًا الطاقۃ، قَدْرَ الامکان بقدرِ الامکان اور علی قدرِ الامکان: جہاں تک ممکن ہے، جتنا ممکن ہے، حتیٰ المقدور، مقدور بھر۔ اغلبیۃ قدرُھا مائۃُ صوتٍ: ایک سو ووٹوں کی اکثریت ذَوُو قدر۔ اہم لوگ، ممتاز لوگ۔ قَدَر جمع اَقْدار: خدا کا ازلی فیصلہ، تقدیر، قسمت، مقدر، قضا، نصیبہ، مذھبُ القَدَر: تقدیر پر ایمان، مسئلہ جبر۔ القضاء و القدر: قسمت اور خدائی فیصلہ۔ قَضاءً و قَدَرًا، بالقضاء و القَدَر: قسمت سے، خدائی حکم یا فیصلہ سے، جاءَ علی قَدَرٍ: وہ صحیح وقت پر آپہنچا، القَدَرِیۃ: انسان کے اختیار و ارادہ پر زور دینے والا ایک اسلامی مکتبہ فکر۔ قِدْر (مذکر و مونث) جمع قُدُور: ہانڈی، برتن، کیتلی، قِدْرَۃ: مندرجہ بالا معانی، قَدَرَۃ: چھوٹی بوتل، فلاسک Flask، قُدْرَۃً علی: کی صلاحیت، استعداد، قابلیت، کے لئے اختیار، طاقت ——: اثر آفرینی، صلاحیت، قابلیت، لیاقت، مناسبت، (اللہ تعالیٰ کی) قدرت کاملہ۔ القدرۃ علی العمل: طاقت، وسعت، القدرۃ علی الانتقاء: قوتِ انتخاب۔ قَدِیر: قوت والا، اختیار اور قابو والا، طاقت ور، اثر آفرین، —— علی: کی پوری مہارت والا، میں کامل، پر پورے غلبہ والا ——: قادر مطلق، خدائے قدیر۔ اَقْدَر: زیادہ طاقت ور، زیادہ اہل۔ —— علی: کا زیادہ اہل، کو کرنے کا زیادہ قابل۔ المَقْدُرَۃ الحربیۃ: فوجی وسائل، فوجی طاقت۔ مِقْدار اَدْنیٰ: کم سے کم، مِقدار اَقْصیٰ: زیادہ سے زیادہ۔ بِمقدارِ ما: جتنی حد تک، جتنے درجے تک، جتنا۔ بھذا المقدار: اس حد یا درجہ تک، اتنا بمقدار: کسی حد یا درجہ تک، کچھ، تقدیراً: عملاً، درحقیقت، اصل میں، فی الواقع تقدیراً لِھذا: کی قدردانی یا دادرسی کے طور پر، علی اَقَلِّ تقدیر: بہرحال، بہرصورت، کم از کم علی اَکْثَرِ تقدیر: زیادہ سے زیادہ۔ عن مُبْلَغٍ تقدیری: (جہاں تک میں اپنے لئے اندازہ لگا سکتا ہوں۔ فی مقدورہ

أن: کو کرنے کے قابل ہونا، کا اہل ہونا، کی پوزیشن میں ہونا، کا امکان رکھنا۔ مُقَدَّرات: قسمتیں، تقدیریں، تخمینے، ابتدائی اندازے۔

قدس: ۱۔ قَدُسَ ـُ قُدْسًا و قُدُسًا: پاک ہونا، بابرکت ہونا۔ قَدَّسَ اللّٰہُ فلانًا: کو پاک کرنا، بابرکت کرنا۔ ـ الرجُلُ اللّٰہَ: اللہ کی تنزیہ کرنا، کے قدوس ہونے کی صفت بیان کرنا —— للّٰہ: اللہ کی پاکی بیان کرنا اللہ کے لئے اپنے آپ کو پاک کرنا کہا جاتا ہے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ: یعنی ہم اپنے آپ کو تیرے لئے پاک کرتے ہیں۔ —— الرجُل: بیت المقدس میں آنا۔ —— الکاھنُ عند النصاریٰ: عشاء ربانی ادا کرنا۔ تَقَدَّس: پاک ہونا۔ القُدْسُ (مص): یروشلم، بیت المقدس بعض عیسائی کاتب قدس کو حضرت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جب وہ علماء دین بالمقابل احترام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں: مثلاً قُدْسُ الاَبِ العَامِ۔ کہتے ہیں قُدْسُ الاَقْدَاسِ عِنْدَ الیَھُوْدِ: مقدس جگہ یہاں یہودی علماء سال میں صرف ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں۔ حظیرۃ القُدْس: جنت۔ القُدُسُ (مص) روحُ القُدُس والروحُ القُدُس عند النصاریٰ: اقانیم ثلاثہ میں سے تیسرا اقنوم۔ روحُ القُدُس عند المسلمین: حضرت جبریل علیہ السلام۔ القَدَاسَۃُ: پاکی، یہودی عالم کا لقب کہا جاتا ہے۔ قَداسۃ الحبر الاعظم او صاحب القداسۃ۔ القَادِسُ: بیت حرام۔ القَدَّاسُ ج قَدَادِیْسُ عند النصاریٰ: عشائے ربانی کی رسم۔ القَدُّوْسُ والقُدُّوْسُ: اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام یعنی ہر نقص و عیب سے پاک۔ القِدِّیْسُ مونث قِدِّیْسَۃٌ: عند اللہ مقبول، عیسائیوں کے نزدیک ولی، وہ مومن جو طاہر و فاضل کی حیثیت سے وفات پائے (نصرانیہ)۔ المَقْدِسُ: مقدس جگہ، بیتُ المَقْدِس: قدس شریف کا حرم، (یروشلم میں)، نسبت کے لئے مَقْدِسِیّ۔ المُقَدِّسُ (فا): یہودی عالم، راہب۔ البیتُ المُقَدَّس: بیت المقدس، نسبت کے لئے مُقَدَّسِیٌّ۔ الارضُ المُقَدَّسَۃ: ارض فلسطین۔ ارضٌ مُقَدَّسَۃٌ: مبارک زمین۔

۲۔ القُدُسُ: وہ پتھر جو پانی کی قلت و کثرت معلوم کرنے کے لئے کنویں میں ڈالا جائے، القُدُسُ و القُدْسُ: چھوٹا پیالہ۔ القَادِسُ ج قَوَادِسُ: بڑی کشتی، اونٹوں کی سیرابی کے لئے پانی میں رکھا جانے والا چھوٹا پتھر۔ القَادُوسُ ج قَوَادِیْسُ: [illegible]

دانے ڈالنے کا برتن، عوام اسے کور کہتے ہیں، نہر سے پانی نکالنے کا برتن۔ القُدَاسُ: اونٹوں کے حوض کے پانی کا اندازہ کرنے کا پتھر، چاندی کا بنا ہوا موتی، بڑی شرافت۔ القَدُوْسُ: سخت اقدام کرنے والا۔ القَدِیْسُ: موتی۔

○ قَدَّسَ اللّٰہ سِرَّہُ: اللہ اس کے راز کو مقدس قرار دے، کسی وفات پائے ہوئے مسلمان ولی کا ذکر آنے پر کہا جاتا ہے) قُدَّاس جمع قُدَّاسات و قداديس: عشائے ربانی کی رسم، نماز یا دعا (مسیحیت میں) قُدَّاسۃُ البابا: تقدس مآب پاپائے روم۔ الکتابُ المُقَدَّس: مقدس الہامی کتابیں، بائبل (پرانا اور نیا عہدنامہ)

○ قادِس: جنوب غربی سپین کی بندرگاہ کا نام۔

قدع: ۱۔ قَدَعَ ـَ قَدْعًا الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔ —— الامرَ: کو کر گزرنا۔ —— الخمسین من عمرہ: پچاس سال کی عمر سے تجاوز کرنا۔

۲۔ قَدَعَ ـَ قَدْعًا السفینۃَ: کشتی کو پانی میں دھکیلنا۔ —— من الشراب: کو گھونٹ گھونٹ پینا۔ تَقَدَّعَ لہ بالشر: سے برائی کے لئے آمادہ ہونا۔ تَقَادَعَ القومُ: ایک دوسرے کو دفع کرنا اور کھینچنا، پے در پے مرنا۔ —— القومُ بالرماح: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ —— علی الشیئ وفیہ: پر جوق در جوق گرنا کہا جاتا ہے۔ تقادع الذبابُ فی المَرَق: شوربے میں مکھیاں پے در پے گریں۔ القَدُوْعُ: کسی چیز پر گرنے والا۔

۳۔ قَدَعَ ـَ قَدْعًا فرسَہُ باللجام: گھوڑے کو لگام سے کھینچنا —— الذبابَ عنہ بکذا: کسی چیز سے مکھی کو دفع کرنا —— ہ عن کذا: کو سے روکنا۔ قَدِعَ ـَ قَدَعًا: رکنا۔ —— تْ عینُہُ: زیادہ دیکھنے سے کمزور ہونا، کہا جاتا ہے۔ قَدِعَتُ لِیَ الخمسُوْنَ: میں تقریباً پچاس سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ قَادَعَ ہُ بعیرُہُ: اونٹ کا اپنے مالک سے کلیلیں کرنا۔ اَقْدَعَ ہُ عن کذا: و سے روکنا۔ الرجُلَ: کو گالی دینا۔ تَقَادَعَ القومُ: اپنے اپنے مقامات پر واپس آنا۔ اِنْقَدَعَ: [illegible] —— عن الشیئ: سے شرم کرنا۔ القَدَعُ: بزدلی، انکساری مَاءٌ قَدِعٌ: پانی جو کھاری ہونے کی وجہ سے پیا نہ جا سکے۔ امرَاۃٌ قَدِعَۃٌ: شرمیلی کم بولنے والی عورت۔ القَدُوْعُ: ذلیل۔ امرَاۃٌ قَدُوْعٌ: شرمیلی کم بولنے والی عورت۔ المِقْدَعَۃ: مورچھل، مکھی ہانکنے کی چوڑی لاٹھی۔

القَدَعُ: زیادہ رونے کی وجہ سے نظر کی کمزوری۔ القَدِعُ:

maarifat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بہت رونے والا۔ القِدْعَۃُ: چھوٹا سینہ بند۔
المُقَدَّعُ: جھری دار۔

قذف: قَذَفَ ـُ قَذْفًا الماءَ: پانی کا چلو لینا۔ پانی گرانا۔
—— ہ: کو کسی حیلہ فراڈ سے اس کی جگہ سے لے جانا (عامیہ) القَذَافُ: مٹی کا گھڑا، پیالہ۔ التَقْذِیْفُ عند البحریۃ: یہ تقذیف کا محرف ہے اس طرح المِقْذَافُ المقذاف کا تحریف شدہ ہے۔

قدم: ۱۔ قَدَمَ ـُ قَدْمًا و قُدُوْمًا القومَ: قوم سے آگے نکلنا۔ قَدَّمَ القومَ: قوم سے سابق ہونا۔ — ہٗ: کو آگے کرنا۔ —— ہٗ الی الحائط: کو دیوار کے قریب کرنا۔ بین یدیہ: آگے بڑھانا۔ یمینا: قسم کھانا۔ — الیہ بکذا: کو کا حکم دینا۔ اَقْدَمَ فلانا: کو آگے بڑھنا۔ — یمیناً: قسم کھانا۔ تَقَدَّمَ: آگے بڑھنا، بہت پیش قدمی کرنیوالا ہونا۔ —— القومَ: قوم سے سابق ہونا۔ —— الیہ بکذا: کو کا حکم دینا، کہا جاتا ہے: فلان یتقدم بین یدی ابیہ: فلاں اپنے باپ کے سامنے پیش قدمی کرتا ہے۔ اِقْتَدَمَ بمعنی تَقَدَّمَ: آگے بڑھنا۔ اِسْتَقْدَمَ القومَ: سے آگے کو بڑھ جانا۔

قَادِمُ الرَّحْلِ: کجاوے کا اگلا حصہ۔ —— الانسانِ ج قَوَادِمُ: انسان کا سر۔ القُدُمُ: آگے گزرنے والا، کہا جاتا ہے مَضٰی قُدُمًا: وہ سیدھا گیا ادھر ادھر نہیں مڑا، مذکر و مونث دونوں کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔ القَدَمُ: آگے بڑھنا، اولیت خواہ خیر میں ہو یا شر میں، کہا جاتا ہے لفلان فی کذا قَدَمُ صِدْقٍ او قَدَمُ سوءٍ: یعنی فلاں کے لئے اس معاملہ میں اچھی اولیت یا بری اولیت ہے، اور کہا جاتا ہے۔ لفلان عند فلان قدم: یعنی فلاں کا فلاں پر احسان ہے۔ القِدَمُ: اولیت کہا جاتا ہے۔ لہ قِدَمٌ فی ھذا الامر: اس کو اس معاملہ میں اولیت ہے۔ القُدْمَۃُ: معاملہ میں اولیت۔ التَقْدِمَۃُ ج تَقَادِمُ: مصدر قَدَّمَ کا۔ القَادِمَۃُ: لشکر، قَوَادِمُ اور القُدامٰی کا واحد ہے، بازو کے اگلے پر، جو بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے پروں کو خوافی کہتے ہیں۔ جو قوادم کے نیچے ہوتے ہیں۔ قَادِمَۃُ الرَّحْلِ: کجاوہ کا اگلا حصہ۔ قَادِمَۃُ العسکر: فوج کا اگلا دستہ۔ القَدَمَۃُ من الغنم: بکری جو چرنے میں سب سے آگے ہو۔ القُدامٰی: فوج کا اگلا دستہ۔ قُدَّامُ: آگے، مونث ہے اور اس کی تصغیر قُدَیْدِیْمَۃٌ: اور کبھی یہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو اس کی تصغیر قُدَیْدِیْمٌ: آتی ہے کہا جاتا ہے: لقیتہ قُدَّامَ ذاک و قدیدیمۃً ذاک: یعنی میں نے اس سے اس سے پہلے یا کچھ پہلے ملاقات کی۔ القُدَّامُ و القَدَّامُ و القِدِّیْمُ: شرافت کی وجہ سے لوگوں میں آگے رہنے والا، سردار، بادشاہ۔ القَیْدُوْمُ و القَیْدَامُ: اگلا حصہ۔ قَیْدُوْمُ الجَبَلِ: پہاڑ کا آگے کو نکلا ہوا حصہ۔ الاَقْدَمُ: اسم تفضیل۔ التَقْدِمَۃُ ج تَقَادِمُ: ہدیہ۔ المُقْدِمُ ج مَقَادِیْمُ من الرحل: کجاوہ کا اگلا حصہ —— من العین: ناک سے ملا ہوا آنکھ کا گوشہ۔ — من الوجہ: چہرے کا وہ حصہ جو سامنے ہو۔ المُقَدَّمُ فی اصطلاح اھل لبنان: دس بڑے عہدوں میں سے تیسرا عہدہ، سب سے بڑے عہدہ کا نام امیر پھر خوند پھر مُقَدَّم پھر شیخ (اع) فوجی عہدہ۔ اس کے متوازی عہدہ کا نام۔ قوماندان۔ —عندالمنطقیین: یہ صدر قضیہ شرطیہ ہے جس پر اس کے مابعد قضیے مترتب ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں ان کانت الشمس طالعۃ فالنھار موجود: اس سے کم درجہ قضیہ کو تالی کہتے ہیں، — ج مَقَادِیْمُ من الرحل: کجاوہ کا اگلا حصہ۔ —— من العین: ناک سے ملا ہوا آنکھ کا گوشہ۔ — من الوجہ: چہرہ کا سامنے والا حصہ۔ المُقَدِّمَۃُ: پیشانی، پیشانی کے بال، موقوف علیہ خواہ عقلی ہو یا عادی یا وضعی جیسے آپ کہیں کلُّ مرکّب فاسدٌ و کلّ جسمٍ مرکّبٌ فکلّ جسمٍ فاسِدٌ: یہ مقدمہ (مقدمۃ القیاس) کے نام سے معروف ہے۔ اس پر قضیوں کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے چنانچہ کلّ مرکّبٍ فاسدٌ یہ قضیہ کبریٰ ہے، کلّ جسم مرکّبٌ قضیہ صغریٰ و کل جسم فاسد نتیجہ ہے — من کل شیئ: ہر چیز کا شروع۔ و المُقَدَّمَۃُ من الجیش: فوج کا اگلا حصہ، ہراول — من الکتاب: دیباچہ — مقدمۃ الرحل: کجاوہ کا اگلا حصہ۔

۲۔ قَدَمَ ـُ قَدْمًا و قُدُوْمًا علی قِرْنِہٖ: ہمسر پر جرأت کرنا، دلیری کرنا۔ قَدِمَ ـَ قَدَمًا و قُدْمًا و قُدُوْمًا علی قِرْنِہٖ: ہمسر پر جرأت کرنا۔ —علی الامر: پر بہادری دکھانا۔ اَقْدَمَ علی قِرْنِہٖ: پر جرأت کرنا۔ علی الامر: پر بہادری دکھانا۔ تَقَدَّمَ و اِسْتَقْدَمَ: بہت پیش قدمی کرنے والا ہونا۔ اِقْتَدَمَ بمعنی تَقَدَّمَ۔ القُدُمُ و القُدُمُ: دلیر کہا جاتا ہے ھُوَ یَمْشِی القُدُمَ: وہ لڑائی میں آگے آگے رہتا ہے۔ القَدَمُ: بہادر (مذکر مونث، مفرد اور جمع واقع ہوتا ہے) کہا جاتا ہے رَجُلٌ قَدَمٌ و اِمْرَاۃٌ قَدَمٌ و رِجَالٌ قَدَمٌ و نِسَاءٌ قَدَمٌ: اور کہا جاتا ہے ھو ذو قدم یعنی وہ بہادر ہے۔ القَدِمُ: بہت اقدام کرنے والا۔ القُدْمَۃُ: جرأت۔ الاَقْدَمُ (ح) شیر۔ القَدُوْمُ ج قُدُمٌ: دلیر، بہت اقدام کرنے والا۔ القُدْمِیَّۃُ: مغرورانہ چال، کہا جاتا ہے فلان یمشی القدمیۃ: یعنی فلاں کی چال مغرورانہ ہے اور کہا جاتا ہے ھُوَ یَمْشِی القُدَمِیَّۃَ و الیَقْدُمِیَّۃَ و التَقْدُمِیَّۃَ: وہ جنگ میں دشمن پر پیش قدمی کرنیوالا اور مکارم اخلاق میں بلند مرتبہ ہے۔ المِقْدَامُ و المِقْدَامَۃُ ج مَقَادِیْمُ: بہت زیادہ اقدام کرنے والا، اس میں تاء مبالغہ کے لئے ہے۔

۳۔ قَدُمَ ـُ قِدَمًا و قَدَامَۃً: پرانا ہونا، حدث کی ضد۔ صفت قَدِیْمٌ و قُدَامٌ۔ تَقَادَمَ: بمعنی قَدُمَ۔ القَدَمُ: خاندانی شرافت۔ القِدْمُ: پرانا زمانہ۔ کہا جاتا ہے کان کذا قِدْمًا: ایسا پرانے زمانہ میں ہوا۔ القِدَمُ: حدوث کی ضد۔ قِدَمُ العَالَمِ او اَزَلِیَّۃُ العَالَمِ: فلسفی مذہب کہ عالم ازلی ہے اس کے وجود کی کوئی علت نہیں ہے لہٰذا یہ قدیم ہے۔ القَدِیْمُ و القُدَامُ ج قُدَمَاءُ و قُدَامٰی و قَدَائِمُ مونث قَدِیْمَۃٌ ج قَدِیْمَاتٌ و قَدَائِمُ: پرانا۔

۴۔ قَدِمَ ـَ قُدُوْمًا و مَقْدَمًا و قِدْمَانًا المدینۃَ: شہر میں آنا۔ — من سفرہ: سفر سے واپس ہونا۔ الی الامر: کا قصد کرنا۔ اَقْدَمَہُ البلدَ: کو شہر میں آنے پر آمادہ کرنا۔ اِسْتَقْدَمَ الرجلَ: سے آنے کو کہنا۔ القَادِمُ ج قُدُوْمٌ و قُدَّامٌ و قَادِمُوْنَ (فا)۔ العام القادم: آئندہ سال۔ القَادِمَۃُ۔ القادم کا مونث۔ المَقْدَمُ: آنے کا وقت۔

۵۔ قَدِمَ ـَ قُدُوْمًا و اَقْدَمَ علی العیب: عیب پر راضی ہونا۔

۶۔ القَدُمُ: سرخ کپڑا۔ القَدَمُ ج اَقْدَامٌ و قُدَامٌ اسم تصغیر۔ قُدَیْمَۃٌ: پاؤں (مونث کبھی مذکر بھی آجاتا ہے) — فی القیاس: پاؤں کے انگوٹھے کے کنارے سے ایڑھی کے کنارے تک، کہا جاتا ہے۔ جَعَلَ دِمَاءَ ھُمْ تَحْتَ قَدَمَیْہِ: ان کے خون کو اپنے قدم کے نیچے کر دیا یعنی معاف کر دیا، اور کہا جاتا ہے اِجْعَلْ ذَالِکَ تَحْتَ قَدَمِکَ: اسے اپنے قدم کے نیچے کر دو یعنی معاف کر دو، اور کہا جاتا ہے وَضَعَ قَدَمَہٗ فِی العَمَلِ: یعنی اس نے کام شروع کر دیا۔ القَدِمُ (ط ا): سخت سنگستان۔ القَدَمَۃُ: سخت سنگستان۔ القُدَّامُ: قصاب۔ القَدُوْمُ و القَدُّوْمُ ج قُدُمٌ و قَدَائِمُ: تیشہ، کلہاڑا (مونث)۔

۷۔ القُدَامِسُ: سخت کہا جاتا ہے، عِزٌّ اَوْ حَسَبٌ قِدْمَاسٌ: یعنی پرانا شرف یا حسب۔ القُدْمُوْسُ ج قَدَامِیْسُ: پرانا، (کہا جاتا ہے۔ عِزٌّ او حَسَبٌ قُدْمُوْسٌ: یعنی پرانا شرف یا حسب، سخت، بڑی چٹان، ہراول، لشکر کا اگلا حصہ۔ جَیْشٌ قُدْمُوْسٌ: بڑا لشکر۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

القُدْمُوسَةُ: بڑی چٹان۔
قدن: القَدْنُ: کافی کہا جاتا ہے۔ قَدْنُ زَيْدٍ دِرْهَمٌ: زید کے لئے ایک درہم کافی ہے۔
قدو: ١۔ قَدَا ـُ قَدْوًا: قریب ہونا، سفر سے واپس ہونا۔ به فرسُهُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ اقْدٰى اِقْدَاءً: بوڑھا ہونا اور موت کے قریب پہنچنا۔ ـــ من السفر: سفر سے واپس آنا۔
٢۔ قَدَا ـُ قَدْوًا وقَدِىَ يَقْدٰى قَدًى و قَدَاةً و قَدَاوَةً الطعامُ: کھانے کا مزیدار و خوشبودار ہونا صفت قَدٍ و قَدِيٌّ: آپ کہیں گے۔ شَمَمْتُ قَدَاةَ القِدْرِ: میں نے ہنڈیا کی خوشبو کو سونگھا۔ اَقْدٰى اِقْدَاءً المسكُ: مشک کی خوشبو کا بھڑکنا۔ القَدَا: خوشبو، کہا جاتا ہے۔ مَا اَقْدٰى طَعَامَ فلانٍ: یعنی فلاں کا کھانا کس قدر مزیدار و خوشبودار ہے۔
٣۔ اَقْدٰى اِقْدَاءً: خیر اور امور دینیہ میں استقامت اختیار کرنا۔ تَقَدّٰى تَقَدِّيًا على دابته: چوپایہ پر سوار ہو کر درمیان راستہ میں چلنا۔ ـــ ت الدابة برا كبها: چوپایہ کا سوار کو وسط راستہ پر لیجانا۔ القَدْوٰى: استقامت
٤۔ اِقْتَدٰى اِقْتِدَاءً بفلان في كذا: کی میں پیروی کرنا۔ القِدْوُ ج اَقْدَاءٌ: جڑ جس سے شاخیں نکلیں۔ القِدَةَ والقَدْوَةُ والقِدْوَةُ والقُدْوَةُ و القِدْيَةُ: نمونہ، اسوہ، کہا جاتا ہے۔ لِىْ بِكَ قُدْوَةٌ: میرے لئے تمہاری زندگی میں اسوہ ہے۔
قدى: ١۔ قَدٰى ـِ قَدْيًا الطعامُ: مزیدار و خوشبودار ہونا۔
٢۔ قَدٰى ـِ قَدَيَانًا الفرسُ: تیز رفتار ہونا کہا جاتا ہے قَدَتْ قَادِيَةٌ: قحط زدہ قوم کا دیہات سے آنا۔ قَادٰى مُقَادَاةً الرجُلَ: سے مقابلہ کرنا۔ القَادِيَةُ ج قَوَادٍ: دیہات سے آنے والی قحط زدہ قوم۔ القِدَةُ: نمونہ۔ القِدْيَةُ: قِدیٰ کا اسم نوع، روش، طریقہ، سیرت کہا جاتا ہے۔ خُذِى هِدْيَتَكَ وَقِدْيَتَكَ: اپنی روش و طریقہ کو اختیار کرو۔
٣۔ قَدّٰى نى هذا الامرُ: یعنی یہ مجھے کافی ہے، عوام کہتے ہیں هٰذَا يُقَدِّى: یعنی یہ کافی ہے۔ القَدٰى والقِدٰى: مقدار، اندازہ، کہا جاتا ہے۔ بَيْنَهُمَا قَدٰى رُمْحٍ: ان دونوں کے درمیان ایک نیزہ کا فاصلہ مقدار ہے۔ یعنی نیزہ کی لمبائی جتنی دوری ہے۔
٤۔ تَقَدّٰى: ناز سے چلنا۔ المُتَقَدِّىْ (فا) (ح): شیر۔
٥۔ القِدَةُ ج قِدَاتٌ (ح): ایک قسم کا سانپ۔
○ قدم: قَدَمَ ـُ قَدْمًا و قُدُومًا ةُ: سے پہلے یا آگے ہونا۔ قَدِمَ ـَ قُدُومًا وقِدمانا و مَقْدَمًا ہ: کسی جگہ پہنچنا۔ -: آنا۔ ـــ ہ/ على/ اِلى: کے پاس پہنچنا۔ ـــ ہ/ على/ الى: کسی جگہ پہنچنا۔ ـــ على: کو کرنے کی جسارت کرنا۔ قَدُمَ ـــ قِدَمًا: قدیم ہونا، پرانا ہونا، قَدَّمَ ہ/ ہ: کو پہلے یا آگے کرنا، کے آگے لیجانا، کو آگے چلانا، کو آگے بھیجنا۔ ـــ ہ ل: کو بطور تعارف پیش کرنا جیسے کسی کتاب کا دیباچہ، تمہید، مقدمہ، پیش لفظ۔ ہ/ ہ: کو سر فہرست رکھنا۔ ـ ہ: گھنٹہ آگے کرنا۔ ـ ہ: کو پہلے کرنا۔ ـ ہ/ ہ على: کو سے پہلے برتری دینا، ـ ہ على: کو پر ترجیح دینا۔ ـ ہ على: کو پر ترجیح دینا ـ ہ على: کو کیلئے بطور قانونی سرپرست مقرر کرنا۔ ـ ہ ل: کو کے لئے تیار کرنا، تیار رکھنا، الگ کرنا، مخصوص کرنا، ـ ل: کا سوچنا، کا اہتمام کرنا۔ ہ ل/ اِلى: کوئی چیز کسی کو پیش کرنا، کو پر ظاہر کرنا، کوئی چیز کسی کو دینا، کو کے سپرد کرنا، کو کے پاس بھیجنا، کو کے سامنے رکھنا، کو کوئی چیز بطور تحفہ یا ہدیہ دینا۔ ـ ہ/ ہ ل/ اِلى: کو کے روبرو پیش کرنا۔ ہ ل/ الى: کوئی کتاب کسی کے نام معنون کرنا، کسی کتاب کا کسی کے نام انتساب کرنا۔ ـ ہ: رپورٹ وغیرہ مسل میں لگانا، ـــ ہ ل/ اِلى: درخواست وغیرہ کسی کو پیش کرنا، کے سامنے شکایت رکھنا۔ ـ ہ: جواب دینا۔ ـ ہ: امتحان دینا۔ ـ ہ اِلى/ أمام: کو کسی متعلقہ حاکم یا عدالت کے روبرو پیش کرنا۔ ـ ہ ل/ اِلى: کا سے تعارف کرانا، کی سے شناسائی کرانا۔ قُدِّمَ (لازم): پہلے یا آگے ہونا، گھنٹہ کا آگے ہونا۔ قَدَّمَهُ بين يديه: کسی چیز کو دوسری چیز سے آگے بھیجنا، کسی چیز کو دوسری چیز سے آگے ہونے دینا۔ قَدَّم له الثمنَ: کو پیشگی قیمت ادا کرنا۔ قَدَّم خِدْمَةً: کوئی خدمت کرنا۔ ـــ خطوةً: ایک قدم آگے رکھنا۔ قَدَّم الشكرَ لَهُ: کا شکریہ ادا کرنا۔ قَدَّم نفسَهُ اِلى البوليس: خود کو پولیس کے حوالے کرنا۔ ماقَدَّمْتُ واَخَّرْتُ: جو کچھ میں نے کیا ہے۔ ماقَدَّمَتْ يداك؟: تم نے کیا جرم کیا ہے۔ يُقَدِّمُ رِجلاً ويُؤَخِّرُ اُخرى: ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، پس و پیش کرنا، کوئی فیصلہ نہ کر سکنا۔ فرقُ شهورٍ لاتقَدِّم ولاتؤخر: چند ماہ کا فرق جو اہم نہیں ہے۔ اَقْدَمَ: بہادر، نڈر یا بے باک ہونا۔ ـــ على: کچھ کرنے کی جسارت کرنا، کچھ کرنا، کی جرات کرنا، پر حملہ کرنا۔ تَقَدَّمَ ہ/ ہ/ على/ عن: سے آگے یا پہلے ہونا، سے آگے جانا۔ هم/ على: میں سب سے آگے ہونا۔ -: قدیم ہونا۔ ـ نحو: کی طرف جانا، بڑھنا، باقاعدہ قدم اٹھا کر چلنا۔ -: ترقی کرنا۔ ـ اِلى: کے قریب آنا، کو دوران میں مخاطب کرنا، کے پاس آنا۔ بين يديه اِلى: کے روبرو پیش ہونا۔ ل/ اِلى:
(کھیلوں میں) مخالف ٹیم سے ملنا۔ یا اس کا سامنا کرنا۔ ـ الى/ ل ب: کو درخواست پیش کرنا۔ ـ اِلى ب: کو کا حکم دینا، کو کی ہدایت کرنا، کو کوئی کام سپرد کرنا۔ ـ به: کو ترقی دینا، بڑھانا۔ تقدمت به السنُّ: عمر رسیدہ ہونا۔ كما تقَدَّم: جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ غفرَ اللهُ لَهُ ماتَقَدَّمَ من ذنبه و ما تأخرَ: اللہ نے اس کے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ وقتُ بغداد مُتقدِّم ساعتين عن وقتِ اورُ باالوسطى: بغداد کا وقت وسطی یورپ کے وقت سے دو گھنٹے آگے ہے۔ تقَدَّم نحوه: کے پاس آنا، کے نزدیک ہونا۔ تقَدَّم منه: کی جانب بڑھنا، کی طرف جانا۔ تقَدَّم للامتحان: امتحان دینا۔ تقادَمَ: پرانا ہونا۔ فرسودہ ہو جانا، متروک ہونا۔ تقویم پارینہ ہونا۔ تقادَمَ الزمنُ: بہت سا وقت گزر گیا ہے۔ تقادَمَ عهدُهُ: یہ بہت پہلے ہوا، اس کا تعلق ماضی سے ہے۔ اِسْتَقْدَمَ ہ: کو آنے کے لئے کہنا، کو بلانا، بلوانا، بلا بھیجنا۔ قِدَم: عرصہ سے گزرا ہوا وقت، زمانہ قدیم۔ قِدَمًا: زمانہ قدیم میں، گزشتہ زمانہ میں، پرانے زمانہ میں، اگلے وقتوں میں، قِدَم: عرصہ سے گزرا ہوا وقت، زمانہ قدیم، عہد رفتہ، عہد پارینہ، بہت ہی پرانا دور، قدامت، ازلیت، اولیت، تقدم۔ مُنذ القِدَم: عہد رفتہ سے، زمانہ قدیم سے، قدیم روایت کے ذریعے سے، دیر سے چلا آتا۔ قِدَم عَهْدِهِ ب: کے ساتھ اس کی پرانی شناسائی، بے تکلفی یا واقفیت، قَدَم (عموماً مونث) جمع اقدام: پاؤں، پیر، فٹ (12 انچ پیمانہ) قدم، قدم مكعبة: مکعب فٹ۔ سَمْتُ القدم: سمت النظیر۔ اِصْبَعُ القدم: پاؤں کی انگلی، على قدميه: بر پا، پیدل۔ على اطرافِ قدميه یا على الأقدام: پنجوں کے بل۔ على قدمِ الحذرِ: پریشان، بزدل، ڈرپوک، بودا، ڈرا ہوا، سہما ہوا على قدم الاُهبةِ والاستعداد: انتہائی چوکسی کی حالت میں جَرٰى على قدمٍ وساقٍ یا قام على قدم وساق: مکمل طور پر موثر ہو جانا، زوروں پر ہونا، پورے زور سے جاری ہونا۔ ليس لَهُ قدم في: اس کا اس میں کوئی کردار نہیں، وہ اس میں الجھا ہوا نہیں یا ملوث نہیں۔ مَضٰى (سار) قُدُمًا: سیدھا آگے جانا۔ قديم جمع قُدَماء و قُدامى وقَدائِم: پرانا، قدیم، قدیمی، عتیق، بہت پرانے دور کا، ازلی طور پر پہلے سے موجود۔ ـــ القديم: اللہ تعالیٰ، قديمًا یا فى القديم: پرانے وقتوں میں، زمانہ قدیم میں۔ اگلے وقتوں میں۔ منذ القديم یا مِن قديمٍ: پرانے وقتوں سے، دیر سے چلا آتا۔ قديمُ العهد ب:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پرانا شناسا، بے تکلف یا واقف، میں مدتوں کے تجربہ کا حامل، کا طویل عرصہ سے حامل، دراسات قديمة: کلاسیکی مطالعے۔ قُدُوم: آنا، آمد۔ قَدُوم جمع قُدُم: بہادر، نڈر، دلیر، شجاع، بے خوف، باہمت، جرأت مند، دلاور۔ قَدُوم و قَدُّوم جمع قَدَائم و قُدُم: بسولہ، تیشہ۔ قُدَّام: سامنے کا حصہ۔ قُدَّامَ: کے سامنے۔ قَيْدُوم: جہاز کا اگلا حصہ۔ أَقْدَم: زیادہ پرانا، زیادہ قدیم الأَقْدَمُون: بہت پرانے لوگ۔ أَقْدَمِيَة: اولیت، سنیارٹی۔ مَقْدَم: آنا، آمد۔ مِقْدَام: بہادر، دلیر، شجاع، نڈر، بے خوف، شاف سارجنٹ (فوجی عہدہ) تقديم: آگے بھیجنا، (دیکھو قَدَّمَ) پیشکش، گزارش، مسل میں لگانا، نذر، وقف، تہدیہ، ٹینڈر (نیلام کا) بولی، محضر، محضر نامہ جمع تقاديم: سرکاری طور پر مسلمہ سرپرستی (تیونس میں) تَقْدِمَة: پیشکش، ٹینڈر، بولی تہدیہ (سماجی) تعارف، پیشکش، نذر (مسیحیت میں) جمع تقادِم: تحفہ، ہدیہ إِقْدام: بہادری، جسارت، دلیری، بے خوفی، نڈر پن، مضبوط دلی، ہمت، مہم پسندی، مہم جوئی، پہلا قدم، اقدام، پیش قدمی، تَقَدُّم: پیش قدمی، برتری، اولیت، سنیارٹی، فوقیت، پیش قدمی، ترقی، برتری، بڑھنا تَقَدُّمِي: ترقی پسند، ترقی پسندانہ تَقَادُمُ العهد (الزمن): زمانہ کا بڑھنا یا گزرنا مَعَ تَقَادُمِ الزَمَن: زمانہ کی رفتار کے ساتھ، مُقَدِّم: پیشکش کرنے والا، ٹینڈر دینے والا، دینے والا، پیش کرنے والا۔ معطی۔ قَادِم: آنے والا، نووارد، آئندہ (مہینہ وغیرہ) مُقَدِّم الطلب: درخواست دہندہ۔ مُقَدَّم: سامنے کا حصہ، جہاز کا اگلا حصہ، ہوائی جہاز وغیرہ کا آگے کو نکلا ہوا حصہ۔ نسبتوں کی مساوات کا مسلمہ اصول، اورسیئر۔ سپروائزر، فورمین۔ منیجر، لفٹیننٹ کرنل، سرکاری طور پر مقرر کردہ سرپرست وقف جائیداد کا ناظم یا متولی۔ مُقَدَّم عليه: قانونی نابالغ جسے سرکاری طور پر مسلمہ سرپرستی کے تحت رکھا گیا ہو۔ مُقَدَّمًا: پیشگی، پہلے ہی سے، قبل از وقت۔ مُقَدِّمَة و مُقَدَّمَة: جمع مقدمات: سامنے کا حصہ، اگلا حصہ، سامنا، ماتھا، رخ، پیش، جہاز کا اگلا حصہ، پیش منظر، سب سے نمایاں حصہ، ہراول، محافظ دستہ، دیباچہ، پیش لفظ، تمہید، مقدمہ۔ مُتَقَدِّم: پہلے، آگے، آگے بڑھتا ہوا، بہت ترقی یافتہ، آگے، اگلے حصہ میں موجود، پہلا، اول، اہم، مذکورہ بالا، پہلے مذکور، ترقی یافتہ سینئر (کھلاڑی) المتقدم ذِكرُهُ: مذکورہ بالا المتقدم في السنّ او في العمر: سن رسیدہ۔ متقدم على إبّانِهِ: قبل از وقت، بڑا جلد باز، بے توقع، بے محل المُتَقَدِّمُون و المُتَأخِرُونَ: پہلے اور بعد کے، سب۔

قذّ: ۱۔ قَذَّ ـُ قَذًّا الريشَ: تیر کے پر کے اطراف کو کاٹنا اور ہموار کرنا۔ الرجُلَ: کی گدی پر مارنا۔ السهمَ: تیر میں پر لگانا۔ وقَذَّذَ الشعرَ: بال کاٹنا اور برابر کرنا۔ اَقَذَّ السهمَ: تیر میں پر لگانا۔ تَقَذَّذَ القومُ: قوم کا متفرق ہونا کہا جاتا ہے فُلَانٌ لَا يَدَعُ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً: یعنی وہ بہادر ہے جسے دیکھتا ہے مار ڈالتا ہے۔ القُذَّةُ ج قُذَذ و قِذَاذ: انسان یا گھوڑے کا کان، تیر کا پر۔ القُذَاذَةُ ج قُذَاذَاتٌ: پر کا تراشہ سونے وغیرہ کا ریزہ، کہا جاتا ہے۔ إِنَّ لِي قُذَاذَاتٍ و جُذَاذَاتٍ۔ القُذَاذَاتُ: سونے کے ٹکڑے اور جُذَاذَاتٍ: چاندی کے ٹکڑے۔ القَذَّانُ: بڑھاپے کی وجہ سے دونوں طرف کنپٹی کی سفیدی، پرندہ کے بازوؤں کی سفیدی۔ سَهمٌ اَقَذُّ: پروں والا تیر ج قُذٌّ جمع قِذَاذٌ (ضد): بے پر کا تیر، کہا جاتا ہے مَالَهُ اَقَذُّ وَلَا مَرِيشٌ: یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ المَقَذُّ: گدی، سر کے بالوں کے نکلنے کی انتہائی جگہ پیچھے یا آگے یا پیچھے کی طرف، سر کے بالوں کے کاٹنے کی جگہ۔ المَقَذُّ و المِقَذَّةُ: پر تراشنے کا آلہ، چھری وغیرہ۔ المُقَذَّذُ و المَقْذُوذُ: بال تراش کر ہموار کیا ہوا۔ ہر ہموار چیز، آراستہ و پیراستہ۔ المُقَذَّذَة و المَقْذُوذَة: گول کان۔

۳۔ قَذَّ ـُ قَذًّا الحجرَ وكلَّ غليظٍ: پتھر اور ہر قسم کی سخت چیز پھینکنا۔

۴۔ القُذَّة ج قِذَانٌ (ح): پسو۔ القُذذُ (ح): پسو۔

قذح: قَاذَحَ مُقَاذَحَةً ہ: کو گالی گلوچ کرنا۔ تَقَذَّحَ لفلانٍ بالشر: کے ساتھ شرارت کرنا۔

○ اِقْتَدَى ب: کسی شخص یا چیز کی نقل کرنا۔ ب: کی ریس کرنا، کی ہمسری کی کوشش کرنا، کے نقش قدم پر چلنا کی پیروی کرنا، قُدْوَة و قِدْوَة: نمونہ، نقش، عمدہ مثال یا اچھا نمونہ۔ قَذِي: مزیدار، لذیذ، چٹپٹا، خوش ذائقہ (کھانا)۔ اِقْتِدَاء: نقل، ریس، ہمسری کی کوشش۔ ب: کے نمونہ یا مثال کی پیروی۔

○ حَذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ: بالکل ہو بہو، بالکل ویسا ہی مغالطہ آمیز ایک سا۔

قذر: ۱۔ قَذِرَ ـَ قَذَرًا و قَذَارَةً: گندا ہونا، میلا ہونا صفت قَذْرٌ و قَذِرٌ و قَذَرٌ و قَذُرٌ۔ قَذِرًا الشيئَ: کو گندا کرنا۔ قَذُرَ ـُ قَذَرًا و قَذَارَةً: گندا ہونا، میلا ہونا صفت قَذْرٌ و قَذِرٌ و قَذَرٌ و قَذُرٌ۔ قَذِرَ ـَ قَذَرًا و قَذَارَةً: گندا ہونا۔ قَذَرًا الشيئَ: کو گندا کرنا، مکروہ جاننا، سے پرہیز کرنا، کو گندا سمجھنا۔ قَذَّرَ الشيئَ: کو گندا کرنا۔ اَقْذَرَهُ: کو گندا پانا۔ فلانًا: کو تنگ دل کرنا۔ تَقَذَّرَ الشيئَ و منه: کو میل کچیل کی وجہ سے مکروہ جاننا۔ اِسْتَقْذَرَ الشيئَ: کو گندا سمجھنا، میل کچیل کی وجہ سے مکروہ جاننا۔ القَذَرُ (مص) ج اَقْذَارٌ و مَقَاذِرٌ على غير القياس: میل کچیل، کبھی پائخانہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ رَجُلٌ قَذَرَةٌ: ملامت سے دور مرد۔ القَاذُورَةُ ج قَاذُورَاتٌ: بدکار عورت جیسے زانیہ۔ والقَاذُورُ و ذو قاذورة: جو بدخلقی کی وجہ سے لوگوں سے نہ ملے، جو کسی چیز کو بوجہ نفرت کے نہ کھائے۔ القَذُورُ بمعنی القاذور۔ من النساء: مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی عورت یا شک وشبہ سے دور، رَجُلٌ مُقْذَرٌ ج مَقَاذِرُ: مرد جس سے لوگ پرہیز کریں المَقَاذِرُ: گندگیاں۔ المُقْذِرُ ج مُقْذِرُونَ: فواحش کا ارتکاب کرنے والا۔

۲۔ القُذْرُوفُ قُذَارِيفُ: عیب۔

○ قَذَر: میل، ناپاکی، جمع أقذار: گند، گندگی، غلاظت، خشکی، زبوں حالی۔ قَذِر و قَذْر: گندا، میلا، ناپاک، غلیظ، گھناؤنا۔ قَذُور: نازک مزاج، نازک طبع، ناپاک۔ قَذَارَة: گندگی، میلا پن، ناپاکی۔ قَاذُورَة جمع قاذورات: گند، غلاظت، خشکی، گندگی، میلا، کوڑا کرکٹ، آخور، (اخلاقی) آلودگی۔ مَقَاذِر: گندی چیزیں، گند، غلاظت۔

قذع: ۱۔ قَذَعَ ـَ قَذْعًا ہ: کو گالی دینا، سے بے ہودہ بکنا۔ قَذَّعَ ثوبَهُ: کپڑے کو گندا کرنا، میلا کچیلا کرنا۔ قَاذَعَهُ: سے گالی گلوچ کرنا۔ اَقْذَعَ فلانًا: کو گالی دینا اور اس سے بے ہودہ بکنا۔ لفلان: کو سخت سست کہنا۔ القولَ: برا کہنا۔ الرجُلُ: فواحش کا ارتکاب کرنا۔ تَقَذَّعَ له بالشر: سے برائی کی تیاری کرنا۔ سے برائی کرنے کی تیاری کرنا۔ القَذَعُ: گندا، بے حیائی، فحاشی۔ و القَذِيعُ و الاَقْذَعُ: قبیح، بدخلق، قول یا جواب میں حد سے گزرنے والا۔ القَذِعُ: گندگی والا۔ بے حیا۔ القَذِيعَةُ: گالی گلوچ، قبیح قول یا فعل کہا جاتا ہے رَمَاهُ بالمُقْذِعَاتِ او المُقَذَّعَاتِ: اس نے اس پر فواحش کی تہمت لگائی۔

۲۔ تَقَذَّعَ الرجلُ: ناپسند کرنا۔

۳۔ القُذْعُمِلُ: موٹا اونٹ۔ القُذْعُمِلَةُ: پست قامت خسیس عورت، کہا جاتا ہے۔ مَاعِنْدَهُ قُذَعْمِلَةٌ: اس کے پاس کچھ نہیں۔ مَافِي السَّمَاءِ قُذَعْمِلَةٌ: آسمان میں کچھ بھی بادل نہیں۔

○ قَذَعَ ـَ قَذْعًا ہ: کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، کو بدنام کرتے پھرنا۔: چغلی کھانا، بدنامی کرنا، بہتان

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تراشی کرنا۔

قذف : ۱۔ قَذَفَ ـِ قَذْفًا: قے کرنا ـــ المَلّاحُ: چپو سے کشتی چلانا ـــ بقوله: بغیر سوچے سمجھے بک دینا۔ ـالحجرَ و بالحجر: پتھر پھینکنا۔ ـہٗ بکذا: پر کی تہمت لگانا ـــ فلاناً بالحجر: کو پتھر مارنا ـــ الرجُلَ: پر شک سے تہمت لگانا۔ قاذَفَ ہٗ: ایک دوسرے پر تہمت لگانا اور ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تَقاذَفَ الماءُ: پانی کا تیز بہنا۔ ـالفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ القومُ: آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ القومُ بالحجارة: ایک دوسرے پر پتھر پھینکنا ـــ ت به الامواجُ: کو تھپیڑے مارنا اور کہا جاتا ہے۔ تَقاذَفَتْ بِهِ الأبوابُ: کو دروازوں نے دھکا دیا یعنی کوئی شخص کسی دروازے میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ مالک مکان نے دروازہ بند کر دیا اور وہ شخص دوسرے دروازہ پر جانے پر مجبور ہوا اور وہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اِنْقَذَفَ: پھینکا جانا۔ اِسْتَقْذَفَ فلانا بالحجر: کو پتھر مارنا ـــ الرجُلَ: پر کی تہمت لگانا۔ القاذِفُ: (فا) کہا جاتا ہے: هُمْ بَيْنَ حَاذِفٍ وقاذِفٍ: وہ لوگ ڈھیلا پھینکنے والے اور لاٹھی مارنے والے کے درمیان میں ہیں۔ نَاقَةٌ قَاذِفٌ: تیز دوڑنے والی اونٹنی کہ اونٹوں سے دوڑنے میں آگے نکل جائے۔ القَاذِفَةُ ج قَاذِفَاتٌ: بمبار طیارہ۔ القاذُوفُ (اع): چھوٹی توپ۔ القُذُفُ: پھسلن کی جگہ۔ والقَذُوفُ: دور کہا جاتا ہے۔ فلاةٌ اونِيَةٌ قُذُفٌ: دور کا بیابان۔ بَلْدَةٌ قَذُوفٌ: دور دراز کا شہر، قَوْسٌ قَذُوفٌ: تیر کو دور پھینکنے والی کمان۔ نَاقَةٌ قُذُوفٌ و قَذُوفٌ: دوڑنے میں اونٹوں سے آگے نکل جانے والی اونٹنی۔ القَذَفُ: پھسلن کی جگہ، دور کہا جاتا ہے۔ فلاةٌ اونِيَةٌ قَذَفٌ: دور کا بیابان۔ القِذافُ: ہر وہ چیز جو پھینکی جائے، تیز روی۔ ناقةٌ قِذافٌ: تیز دوڑنے والی اونٹنی۔ القَذّافُ اسم مبالغہ منجنیق ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو دور تک پھینکا جائے، سواری۔ القَذِيفُ: دور ـــ (اع)): میزائل۔ القَذِيفَةُ: ہر وہ چیز جو پھینکی جائے اس سے ہے قذائف المدافع و الطائرات: توپ کے گولے، وہ بم جسے جہاز دشمن پر گراتے ہیں۔ ـ القَذِيفَةُ اليَدَوِيَّةُ: ہینڈ گرنیڈ یا دستی بم۔ المِقْذَفُ ج مَقَاذِفُ۔ المِقْذافُ ج مَقَاذِيفُ: چپو۔ المَقَاذِفُ: ہلاکتیں۔ المُقَذَّفُ: لعنت کیا ہوا، کہا جاتا ہے، فَارِسٌ مُقَذَّفٌ: جنگ آزمودہ شہسوار۔ فَرَسٌ مُتَقاذِفٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ سَيْرٌ مُتَقاذِفٌ: تیز چال۔

۲۔ القُذُفُ و القَذَفُ و القُذْفُ: جانب، گوشہ۔ القُذْفَةُ ج قِذافٌ و قُذَفٌ و قُذُفٌ و قُذُفاتٌ: جانب گوشہ، کنگرہ، پہاڑ کا گوشہ جو نکلا ہوا ہو۔ اَقْذَافُ القَصْرِ: محل کے کنگرے۔ القَذافُ تھوڑا پانی۔ القَذَّافُ: ترازو۔ المُقَذَّفُ: پر گوشت۔

قذل: ۱۔ قَذَلَ ـُ قَذْلًا ہٗ: کی گدی پر مارنا۔ القَذالُ ج قُذُلٌ و اَقْذِلَةٌ: گدی، سر کا پچھلا حصہ۔

۲۔ قَذَلَ ـُ قَذْلًا ہٗ: پر عیب لگانا۔ القَذَلُ: عیب۔

۳۔ قَذَلَ ـُ قَذْلًا ہٗ: کا پیچھا کرنا ـــ في الامر: میں کوشش کرنا۔

۴۔ قَذَلَ ـُ قَذْلًا فلانٌ: برگشتہ ہونا اور ظلم کرنا۔

قذم: ۱۔ قَذَمَ ـُ قَذْمًا له من المال: کو مال یک بارگی دینا۔ قَذِمَ ـَ قَذْمًا الماءَ: پانی کا گھونٹ لینا۔ القُذَمُ: بہت دینے والا سردار۔ القُذْمَةُ: پانی کا گھونٹ۔ القِذَمُ: بہت دینے والا سردار ـــ والقُذَامُ من الآبار: بہت پانی والا کنواں۔ بئرٌ قَذُومٌ ج قُذُمٌ: بہت پانی والا کنواں۔ القَذِيمَةُ ج قَذائِمُ: مال کا ایک حصہ جو آدمی کسی کو دے۔

۲۔ اِنْقَذَمَ: تیز دوڑنا۔

○ قَذَفَ ھ / ب: کو پھینکنا، بے کار سمجھ کر پھینک دینا، ترک کر دینا، زور سے پھینکنا، اچھالنا ـــ / ھ / ب: کو زور سے پھینکنا، دھکیلنا، ٹھیلنا ـــ ھ / ب: (کشتی) کھینا، (کچھ) نکالنا، چھوڑنا۔ ہ / ھ / ب: کو نکالنا، نکال باہر کرنا، خارج کرنا۔ ہ / ب: کو بے دخل کرنا، نکال دینا، ـب: کچھ گرانا ـــ ہ / ھ ب: پر کچھ پھینکنا ـــ ہ ب: کو کا الزام دینا، پر کی تہمت لگانا ـــ ہ: کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا ـــ: قے کرنا۔ قذف ہ بالقنابل: پر بم مارنا قذف عليه الشتائم: کے خلاف فحش زبان استعمال کرنا۔ قذّف: چپو چلانا، کشتی کھینا۔ تقاذف ب: ایک دوسرے پر کچھ پھینکنا ـــ ھ: کو آگے پیچھے پھینکنا ـــ ہ / ب: کو ادھر ادھر دھکیلنا۔ تقاذفت به الامواجُ: موجوں سے ادھر ادھر اچھلنا۔ انقذف: پھینکا جانا، اچھلنا، پٹخنا، ڈالا جانا قذْف: بدنامی، تہمت، بہتان، جھوٹا الزام۔ القذف بالقنابل: بمباری۔ طائرةُ قذف القنابل: بمبار طیارہ۔ قذْفي: بدنام کن، ہتک آمیز، افترا پرداز۔ طيارة قذّافة: بمبار طیارہ۔ قذيفة جمع قذائف: گولی، گولا، بم، فتیلہ، بم کی بتی قذيفة نسّافة: آبدوز گولہ، تارپیڈو (Torpedo) قذيفة يدوية: دستی بم۔ مِقذاف جمع مقاذف و مقاذيف: چپو۔ تقذيف کشتی کھینا، چپو چلانا۔ قاذفة القنابل جمع قاذفات القنابل: بمبار طیارہ۔ قاذفة اللهب یا قاذفة النار: شعلے اگلنے والی کل، آگ اگلنے والی کل۔ مَقْذوف جمع مَقاذِيف و مَقْذُوفة جمع مَقْذُوفات: میزائل (Missile) گولہ، گولی۔

قذی: ۱۔ قَذَی ـِ قَذْيًا و قَذًى و قُذِيًّا و قَذَيانًا ت عينُہٗ: آنکھ کا کیچڑ نکالنا۔ قَذِيَ ـَ قَذًى و قَذَيانًا و قُذِيًّا ت عينُہٗ: آنکھ میں تنکا پڑنا صفت قَذِيَةٌ و قَذِيَّةٌ و مَقْذِيَّةٌ ـــ الشرابُ: پینے کی چیز میں تنکا پڑنا۔ قَذّى ـ عينَہٗ: آنکھ سے خس و خاشاک نکالنا۔ اَقْذَى عينَہٗ: آنکھ میں خس و خاشاک ڈالنا۔ اِقْتَذَى الطائرُ: سر کھجلاتے ہوئے آنکھ سے تنکا نکالنا۔ القَذَى ج قُذِيٌّ و اَقْذَاءٌ و القَذَاةُ: آنکھ یا پینے کی چیز میں گرا ہوا تنکا، خس و شاک وغیرہ، کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ يُغْضِي عَلَى القَذَى: یعنی فلاں ظلم برداشت کرتا ہے شکایت نہیں کرتا ـــ صَارَ الاَمْرُ قَذًى فِي عَيْنِهِ: یعنی معاملے نے اسے تکلیف پہنچائی اور اس نے اس کے ازالے کی کوشش کی۔ یوں کی مثال ہے۔ يُبْصِرُ اَحَدُكُمُ القَذَى فِي عَيْنِ اَخِيهِ يُعْمِي عَنِ الجِذْعِ فِي عَيْنِهِ: دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ میں شہتیر نہیں دیکھتا یعنی دوسرے کے تو چھوٹے چھوٹے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے مگر اپنے بڑے بڑے عیوب کو نظر انداز کرتا ہے۔ القِذَى ج قُذِيٌّ و اَقْذَاءٌ: باریک خاک۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ قُذِيُّ العين: وہ شخص جس کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو۔

۲۔ قَذَى ـِ قَذْيًا و قَذًى و قُذِيًّا و قَذَيانًا ت قَاذِيَةٌ: لوگوں کی جماعت آئی۔ القَوَاذِي واحد قَاذِيَةٌ: جو سب سے پہلے تمہارے پاس آئے۔ الاَقْذَاءُ: گھٹیا لوگ۔

۳۔ قَاذَى مُقَاذَاةً الرجلُ: کو بدلہ دینا۔

○ اَقْذَى عينَہٗ: کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، دق کرنا، قَذًى واحد قَذَاة: آنکھ یا پینے کی چیز میں پڑنے والی کوئی چیز، (گرد کا) ذرہ یا گندگی جو سیال یا مائع کی سطح پر تیر رہی ہو۔ آنکھ میں کوئی خارجی چیز۔ قَذًى في عينه: آنکھ کا کانٹا، خار اغضى على القذى: پریشانی کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا، کھسیانی ہنسی ہنسنا اور اسے برداشت کرنا۔ زہر کا گھونٹ پی کر خاموش رہنا یا زہر کا گھونٹ پی کر رہ جانا۔ غَمَّضَ جفونَهٗ على القذى: بمعنی بالا۔ قُذًى جمع اقذاء: تِلی گرد۔ جمع اَقْذاء: ہوا میں تیرتے ہوئے ذرات۔

قرّ: ۱۔ قَرَّ ـِ قَرًّا اليومُ: دن کا ٹھنڈا ہونا۔ قَرَّ ـَ قُرَّةً و قَرَّةً و قُرُورَةً ت عينُہٗ: خوشی کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہونا۔ شخص کی صفت قريرُ العين اور عَيْنٌ کی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

صفت قَرِيْرَةٌ: قَرَّ ـِ قَرًّا القِدْرَ: ہانڈی میں ٹھنڈا پانی ڈالنا۔ ـــ عليه الماءَ: پر ٹھنڈا پانی ڈالنا، کہا جاتا ہے قَرَّ الكَلَامَ فِيْ اُذُنِيْهِ: اس نے کے کان سے منہ لگا کر بات کی۔ قُـرَّ قَـرًّا و قِـرًّا: کو سردی لگنا۔ اَقَـرَّ اِقْرَارًا: ٹھنڈک میں داخل ہونا۔ ـــ اللّٰهُ الرجُلَ: کو سردی پہنچانا، سردی زدہ کو خلاف قیاس مُـقْـرُوْرٌ کہتے ہیں اور مُقَرٌّ نہیں کہا جاتا۔ ـ اللّٰهُ عينَهُ و بعينِهِ: کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا یعنی خواہش کے مطابق دینا اور کامیاب کرنا۔ تَقَرَّرَ القُرَّةَ: ہانڈی کی چمٹی ہوئی چیز کو لینا اور سالن بنانا۔ اِقْـتَـرَّ الـرجُلُ: ہانڈی کی چمٹی ہوئی چیز کو لینا اور سالن بنانا، ٹھنڈے پانی سے نہانا۔ الـقَـارُّ (فـا) ـــ يَوْمٌ قَارٌّ: ٹھنڈا دن۔ مثال ہے وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلّٰى قَارَّهَا: یعنی جو بھلائی کا مزہ لیتا رہا اسے اب برائی چکھاؤ یا جو تجھ سے نفع حاصل کرتا رہا اس سے اب اپنا بوجھ اٹھواؤ۔ القَارَّةُ: القار کی مونث۔ عَيْنٌ قَـارَّةٌ: ٹھنڈی آنکھ، یا کنایہ ہے مسرور ہونے سے۔ القُرُّ: سردی۔ يَوْمٌ قَرٌّ: ٹھنڈا دن۔ لَيْلَةٌ قَرٌّ: ٹھنڈی رات۔ القُرَّةُ (مص): کہا جاتا ہے۔ هُوَقُرَّةُ عَيْنِيْ: وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ و قُـرَّةُ العُيُنِ: (ن) ایک قسم کی گھاس جو پانی بہنے کی جگہ ہوتی ہے یہ جرجیر کے علاوہ ہے کیونکہ جرجیر کڑوی اور یہ میٹھی ہوتی ہے۔ اَبُوْقُرَّةَ: گرگٹ کی کنیت کیونکہ اس پر سردی کا بہت غلبہ رہتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ آفتاب کے سامنے رہتا ہے۔ لَيْلَةٌ قَرَّةٌ: ٹھنڈی رات۔ القَرَّتَان: صبح و شام۔ القِرَّةُ: ٹھنڈک۔ عربوں کی مثال ہے حِرَّةٌ عَلٰى قِرَّةٍ: اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ضمیر کے خلاف ظاہر کرے۔ القَـرَرَةُ والقِرَارَةُ والقَرَارَةُ والقُرَارَةُ و القُرُوْرَةُ: پانی جو پکا لینے کے بعد ہانڈی میں ڈالا جائے تاکہ جلنے نہ پائے۔ الاَقَرُّ: اسم تفضیل، کہا جاتا ہے اَيُّ الاَيَّـامِ اَقَـرُّ: کون سا دن زیادہ ٹھنڈا ہے۔ القَرُوْرُ: ٹھنڈا پانی۔ الـمَقْرُوْرُ: ٹھنڈا، سردی زدہ۔

۲- قَـرَّ ـِ قَرَارًا وقُرُوْرًا و قَرًّا و تَقْرَارًا و تَقِرَّةً في المكان او على الامر: کام پر ثابت قدم رہنا۔ جگہ میں ٹھہر جانا۔ قَـرَّرَهُ في المكان او على العمل: کو جگہ میں ٹھہرانا، کام پر ثابت قدم رکھنا کہا جاتا ہے۔ قَرَّرْتُ عِنْدَهُ الْخَبَرَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ: یعنی میں نے اس کے پاس خبر کو ثابت کیا۔ ـــ هُ بالامر: سے کا اقرار کرانا۔ ـــ ه على الحق: سے حق منوانا۔ قَارَّ مُقَارَّةً في الـصلوٰة: نماز میں سکون اختیار کرنا۔ حرکت نہ کرنا۔ ـــ الرجُلَ: کی موافقت کرنا۔ اَقَرَّ اِقْـرَارًا فلانًـا في المكـان: کو جگہ میں ٹھہرانا۔ ـــ العـاملَ على العمل: مزدور کو کام پر باقی رکھنا۔ ـــ الرجُلُ: ٹھہرنا، تابعدار ہونا۔ ـــ بالحق: کو مان لینا، کا اقرار کرنا۔ ـــ الـكـلامَ لـهُ: سے کو بیان کرنا۔ ـــ القِدْرَ: ہانڈی سے چمٹی ہوئی چیز کو اتارنا۔ ـــ الطائر في عُشِّهِ: پرندے کو گھونسلے میں باقی رکھنا۔ ـــ تِ الناقةُ: اونٹنی کا حمل ٹھہرنا صفت مُقِرٌّ۔ تَقَرَّرَ: ثابت ہونا۔ تَـقَارَّ في المكان: میں ٹھہرنا اور ثابت رہنا۔ اِقْتَرَّ فلانًا في العمل و عليه: کو کام پر باقی رکھنا۔ اِسْتَـقَـرَّ بالمكان: میں ٹھہرنا، ثابت رہنا۔ الـقَارَّةُ عـند اهل الجغرافيا: براعظم جیسے براعظم ایشیا، براعظم یورپ اور براعظم امریکا۔ الـقُـرُّ: کسی جگہ میں قرار، ٹھہرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ وَقَـعْـتَ بِـقُرِّكَ: یعنی جس چیز کے تم خواہشمند تھے اور اس کے لئے کوشاں، تم نے اسے پالیا مثلاً طالب قصاص کو کہا جاتا ہے جب وہ قصاص لے لے۔ الـقُرُّ (مص) مردوں کی سوار ہونے کی جگہ جو کجاوہ اور زین کے درمیان ہوتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک ہودج کو کہتے ہیں۔ يَـوْمُ الـقَرِّ: یوم النحر سے اگلا دن، جس میں حجاج منیٰ میں قیام کرتے ہیں۔ (۱۱) ماہ ذوالحج) الـقُرَّةُ و القَرَرَةُ والـقُرَرَةُ و القُرَارَةُ: ہانڈی کی تلی میں جو لگ جائے، ہانڈی کی کھرچن۔ الـقِرَّةُ: قَرَّ کا اسم نوع۔ القَرَارُ: کسی مسئلہ میں جس پر رائے ٹھہرے، ٹھہرنے کی جگہ، سکون و اطمینان حاصل کرنے کی جگہ، کہا جاتا ہے صَـارَ الاَمْـرُ اِلٰـى قَرَارِهِ: یعنی معاملہ انتہا کو پہنچ گیا۔ (مو) قطعہ کا سر جہاں پہنچ کر گلوکار آواز ختم کر دیتا ہے۔ اَهْـلُ الْـقَـرَارِ: شہری لوگ کہ وہ اپنے مکانوں میں قیام کرتے ہیں برخلاف بدیوں کے کیونکہ وہ خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ دَارُ الْقَرَارِ: دار آخرت۔ القَرَارَةُ: ٹھہرنے کی جگہ، سکون و اطمینان حاصل کرنے کی جگہ، گول گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔ الـقَـرَارِيُّ: درزی، قصاب، شہری جو کسی کا احسان نہ لے۔ الـقَرَايِرِيُّ عند العامة: شہر میں رہائش پذیر یہ قراری کا تحریف شدہ ہے۔ الـقَارُوْرَةُ ج قَوَارِيْرُ: شراب، خوشبو وغیرہ کا برتن، آنکھ کا ڈھیلا، کیونکہ یہ بھی صاف شفاف ہونے میں شیشے کی بوتل جیسا ہوتا ہے انسان غور کرے تو اسے آنکھ کے ڈھیلے میں اپنا عکس نظر آ جاتا ہے، تازہ یا خشک کھجوروں کا برتن۔ الاِقْـرَارُ (مص) شَرْعًا: ایک پر دوسرے کے شرعی حقوق بتانا۔ التَّقْرَارُ والتَّقِرَّةُ (مص): ثبوت، سکون۔ الـمَقَرُّ ج مَقَارُّ والـمُسْـتَقَرُّ: رہنے کی جگہ۔ مَـقَرُّ البئر: کنویں کی تلی میں گڑھا جس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ المَقَرَّةُ: پانی کا حوض، گھڑا۔

۳- قَرَّ ـُ قَرِيْرًا ت الحيّةُ: سانپ کا پھنکارنا۔ ـ قَرًّا وقَرِيْـرًا ت الدجاجةُ: مرغی کا کڑکڑاہٹ بند کرنا۔ القُرُّ: پانی پر تیرنے والا ایک لمبا کیڑا جو ایسی آواز نکالتا ہے جیسے کہہ رہا ہو قُرْقُرْ: عام لوگ اسے حبل القُرّ کہتے ہیں۔ القَرَّةُ والقُرَّةُ والقِرَّةُ (ح): مینڈک۔

۴- تَقَرَّرَ وَاقْتَرَّ ت الابلُ: آسودہ ہونا، بہت موٹا ہونا۔

۵- قَـرُّ الثَّوْبِ: کپڑے کی تہہ۔ الـقَـرَارَةُ: چھوٹا قد۔ القُرِّيْ: کمی جو پرہیز کرنے کے باوجود واقع ہو۔

○ قَرَّ ـِ قَرَارًا في / ب: میں یا کسی جگہ میں رہنے لگنا، آباد ہونا، رہائش پذیر ہونا، آرام کرنا، رہنا، ٹھہرنا، دیر کرنا، دیر لگانا، قَـرَّ الرایُ علی: کا فیصلہ ہونا، پر فیصلہ پہنچنا، پر قرارداد پاس ہونا یا بدیں معنی و مفہوم قرارداد پاس ہونا۔ قَرَّرَ أيُهُ على: کا ارادہ کرنا، فیصلہ کرنا۔ لايقرله حال: متلون مزاج ہونا لايقرله قَرَارٌ: بے چین ہونا، بے تاب یا بے قرار ہونا، پس و پیش کرنا، متذبذب ہونا۔ قَـرَّ ـَ قَرًّا: ٹھنڈا ہونا، سرد ہونا، ٹھنڈے دل و دماغ کا ہونا۔ قَرَّ عَيْنًا: امید قائم رکھنا۔ قَرَّت عينُهُ ب: پر خوش ہونا، مسرور ہونا۔ قَـرَّرَه في: کو میں یا کسی جگہ میں آباد کرنا، بٹھائے رکھنا۔ ـــ ه في: کو میں قائم کرنا، مستقل بنیادوں پر استوار کرنا۔ ـــ ه: کو نمٹانا، کا فیصلہ کرنا، کو مقرر کرنا، ٹھہرانا، کا جدول بنانا، کا گوشوارہ تیار کرنا، کو ٹھیک کرنا، کو دعوے سے کہنا، کو مستحکم کرنا، کی توثیق کرنا، کو بیان کرنا، کہنا۔ ـــ عن: کی خبر مرتب کرنا۔ بیان دینا ـــ ه على / ب: سے کا اعتراف کرنا یا کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنا۔ اَقَرَّه في: کو میں یا کسی جگہ آباد کرنا، ٹھہرانا۔ ـــ ه في: کو میں قائم کرنا۔ ـــ ه: کی حفاظت کرنا۔ کے حفاظتی اقدامات کرنا۔ ـــ ه في: کو میں بٹھانا۔ ـــ ه: کو قائم کرنا، کی بنیاد رکھنا۔ ـــ ه في: کو میں مسند نشین کرنا۔ ـــ ه: کو وثوق سے کہنا۔ ـــ ه / ب: پر رضامندی ظاہر کرنا، سے متفق ہونا، کو ماننا، قبول کرنا۔ ـــ ب: کا اعتراف کرنا، کو قبول کرنا، مان لینا۔ ـــ ل ه / ب: کو کچھ دینا، کو مراعات دینا۔ اَقَرَّ عينَهُ: کو خوش کرنا، مسرور کرنا، کی آنکھ ٹھنڈی کرنا، تَـقَرَّرَ: مقرر ہونا، طے پانا، کا فیصلہ ہونا، ٹھیک ہونا، باقاعدہ بنایا جانا۔ قرار پانا، (صورت حال کا) حل ہو جانا اِسْـتَـقَـرَّ ب / فـي: میں آباد ہونا، رہائش پذیر ہونا، میں آرام کرنے کے لئے آنا۔ ـــ ب / في اِلى: کے ساتھ کسی جگہ آرام کرنا، مقیم ہونا، رہنا، ٹھہرنا۔ ـــ في: میں مضبوطی سے جم جانا، پھنس جانا، پیوست ہو جانا، ـــ: مضبوط

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہونا، ٹھوس ہونا، پائیدار ہونا، مستقل ہونا، مستحکم ہونا (صورت حال، حالات کا) مستحکم ہونا۔ علی: انجام کار کسی حالت کو پہنچنا یا اسے حاصل کر لینا، آخر کار کسی جگہ میں ایک مضبوط مقام پالینا، بالآخر کچھ ہو جانا۔ ــــ: قائم ہونا، ساکن یا غیر تغیر پذیر ہونا۔ استقر خاطِرُہٗ علی: اس کا ذہن پر مرکوز ہو گیا۔ استقر الرایُ علی: کا فیصلہ ہونا، پر یا بدیں معنی و مفہوم ایک قرارداد منظور ہوئی۔ استقر رایہ علی: کا ارادہ کرنا، فیصلہ کرنا، کے لئے، پر یا کچھ کرنے کا فیصلہ کرنا۔

استقر له الامور: اس کی صورت حال مستحکم ہو گئی تھی لایستقر له قرار: بے چین ہونا، پس و پیش کرنا، متذبذب ہونا، لم نستقر بعدُ علی حال: ہم ابھی تک کسی پائیدار حال تک نہیں پہنچے، ہمیں ابھی تک کسی حتمی پوزیشن تک رسائی نہیں ہوئی۔ استقر امرہ علی: وہ آخر کار ہو گیا، استقر فی نفسہ: کے لئے شک و شبہ سے باہر ہونا۔ استقر به المقامُ (یا المکانُ): مستقل طور پر آباد ہونا، بیٹھ جانا، اپنی نشست سے حرکت نہ کرنا۔ استقر به المجلسُ: بیٹھ جانا، نشست پر بیٹھ جانا، ایک نشست لینا۔ استقر به الحال: مضبوطی سے قائم ہونا، آباد ہونا، محفوظ صورت میں ہونا۔ قَرّ: ٹھنڈا، سرد، قُرّ: ٹھنڈ، سردی قِرَّۃ: ٹھنڈ، سردی قُرَّۃ العین: آنکھ کے لئے تسلی، ڈھارس، سامان راحت، خوشی، مسرت، محبوب قَرَار: آرام سے بیٹھ جانا، آباد ہونا، سکون، غیر تغیر پذیری، جڑا ہوا ہونا، جما ہوا ہونا، مضبوطی، مستقل مزاجی، استحکام، استقلال، ثابت قدمی، تسلسل، پائیداری، غیر تغیر پذیری، آرام، ساکن ہونا، دوران، مدت، مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، گھر، مکان، رہائش، سکونت، قیام گاہ، جائے آرام، (کسی برتن کا) پیندا، تہہ، (سمندر کی) گہرائی جمع قرارات: فیصلہ، قرارداد، تحریک۔ لاقرارَ لَهٗ: بے ثبات، متلون، ناپائیدار، قابل تغیر، پیندے کے بغیر، اتھاہ، بے پایاں، لامحدود دارُالقرار: آخرت، آئندہ زندگی، عالم آخرت قرار الموجة: دو موجوں کے درمیان کھوکھلی جگہ، قرارات التعدیل: ترمیمی قواعد۔ قرارۃ: پیندا، تہہ، نشیبی زمین، نشیب، گڑھا، گہرائی۔ فی قرارۃ النفس: دل کی گہرائی میں۔ قریرُ العین: خوش، مسرور، خوش و خرم، تسکین دادہ، قارورۃ جمع قواریر: لمبی گردن والی بوتل۔ مَقَرّ جمع مَقَارّ: مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، رہائش، سکونت، قیام گاہ، گھر، مکان، گودام، نشست، مرکز، جگہ، مقام (سمندر میں) حالت مقر العَمَل: کام کرنے کی جگہ مقر القیادۃ: ہیڈکوارٹرز مقر الوطنیۃ: سرکاری مرکز تقریر المصیر: حق خوداختیاری حق الشعوب فی تقریر مصیرھا: اقوام کا حق خوداختیاری، تقریر الحالۃ الجویۃ: موسمی رپورٹ تقریرُ الشُرطۃَ: پولیس رپورٹ۔ الاداءات (غیر) القارّۃ: بلاواسطہ یا بالواسطہ ٹیکس (جمع) لجنۃٌ قارۃٌ: مستقل کمیٹی، قارّۃ جمع قارّات: براعظم، خشکی کا بڑا ٹکڑا۔ مُقَرِّر: رپورٹر۔ مُقَرَّر: قائم شدہ، فیصلہ شدہ، مقرر کیا ہوا جمع مُقَرَّرات: نصاب (سکول کالج وغیرہ کا) فیصلے مُقَرَّرُ المیزانیۃ: مجوزہ بجٹ حقیقۃ مقررۃ: مکمل حقیقت۔ اموالٌ مُقَرَّرَۃ: بلاواسطہ ٹیکس (جمع) مُسْتَقَرّ: مسکن، رہائش گاہ، قیام گاہ، نشست گاہ، آرام کرنے کی جگہ، سکونت، صدر مقام، مرکز، نشست۔

قرا۔ قَرَأَ ــــ قَرْءًا و قِرَاءَۃً و قُرْآنًا و اِقْتَرَءَ الکتابَ: کو پڑھنا، کا مطالعہ کرنا۔ ــــ قِرَاءَۃً علیہ السلامَ: کو سلام پہنچانا اور امر کی صورت میں اِقْرَأْ عَلَیْہِ السَّلَامَ: کہا جاتا ہے اس کا تعدیہ بنفسہ غلط ہے اس لئے اِقْرَأْہُ السَّلَامَ: نہیں کہنا چاہئے۔ قَارَأَ قِرَاءً و مُقَارَءَۃً: کا شریک درس و قرأت ہونا۔ اَقْرَأَ اِقْرَاءً الرجُلُ: کو پڑھانا۔ ــــ ہُ السلامَ: کو سلام پہنچانا۔ تَقَرَّءَ: فقیہ ہونا۔ اِسْتَقْرَءَ اِسْتِقْرَاءً فلانًا: کو پڑھنے کے لئے کہنا۔ ــــ الامورَ: معرفت احوال کے لئے کا تتبع کرنا۔ القِرَاءَۃُ: (مص) ج قِرَاءَاتٌ: پڑھنے کی کیفیت۔ الاَقْرَءُ: عمدہ طریقہ سے پڑھنے والا، زیادہ پڑھنے والا، کہا جاتا ہے۔ اَقْرَءُکُمْ فُلَانٌ: تم میں سے فلاں سب سے زیادہ پڑھتا ہے۔ القَرَّاءُ ج قَرَّاءُوْنَ: اچھا پڑھنے والا۔ الاِسْتِقْرَاءُ: تتبع کرنا۔ ــــ عند المنطقیین: کلی کے اکثر افراد میں کوئی چیز مستقل ہونے کے ذریعے کل کے لئے حکم ثابت کرنا جیسے آپ کہیں کل حیوان **یحرك فکه الاسفل عند الاکل لان الانسان و البھائم و السباع کذالك الخ**: کہ ہر حیوان کھاتے وقت نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے اس طرح انسان، چوپائے اور درندے سب ایسا ہی کرتے ہیں لہٰذا ہم نے حکم ثابت کر دیا کہ تمام جانور کھاتے وقت نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں المقرَءُ: پڑھنے کے وقت جس پر کتاب رکھی جائے جیسے ڈیسک: رحل وغیرہ۔ المَقْرُوُّ والمَقْرِیُّ والمَقْرُوْءُ: جو چیز پڑھی جائے۔

۲۔ قَرَأَ ــــ قَرْءًا و قُرْآنًا الشیئَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ــــ ت الناقۃُ: اونٹنی کا حاملہ ہونا۔ ــــ ت الحامل: حاملہ کا جننا۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً الامرُ: قریب ہونا۔ من السفر: سفر سے واپس ہونا۔ القُرْآنَ (مص): کتاب اللہ قرآن مجید۔

۳۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً عنہ: سے پھرنا۔ ــــ النجمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔

۴۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً الحاجۃَ: ضرورت کو موخر کرنا۔ ــــ زیدٌ: زید کا پیچھے ہٹنا۔ ــــ ت الحاجۃ: حاجت کا موخر ہونا۔

۵۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً ــــ ت الریاحُ: ہوا کا وقت پر چلنا، القُرْءُ ج اَقْرَاءٌ و قُرُوْءٌ و اَقْرُءٌ: وقت۔

۶۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً الرجلُ: عبادت کرنا۔ تَقَرَّءَ: عبادت کرنا۔ القَارِئُ ج قُرَّاءُ و قَارِءُوْنَ قَرَأَۃٌ: عبادت گزار۔ القُرَّاءُ ج قُرَّاءُوْن و قَرَارِئُ: عبادت گزار۔ المُتَقَرِّئُ: عبادت گزار۔

۷۔ القَرْءُ ج اَقْرَاءٌ و قُرُوْءٌ و اَقْرُءٌ: قافیہ۔ اَقْرَاءُ الشِعْرِ: شعر کی اقسام اور بحریں اور شعر کے مقاصد۔ القِرَاءَۃ: وبا۔

قَرَأَ ــــ قِرَاءَۃً (ہ): کو خصوصاً قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا، کی تلاوت کرنا۔ ــــ علی ہ: کو کچھ سنانا۔ ــــ ہ: کچھ پڑھنا۔ ــــ علی / ل ہ: کو پڑھ کر بتانا۔ ــــ علی ہ: سے کچھ پڑھنا، کے تحت مطالعہ کرنا، قَرَأَ علیہ السلامَ: کو سلام کرنا، کا خیر مقدم کرنا۔ قَرَّأَ حسابہ ل: سے حساب چکانا، کو حساب میں رکھنا۔ قَرَأَلَہُ الف حِساب: کے بارے میں ہزاروں اندیشے رکھنا۔ اَقْرَأَہٗ ہ: سے کچھ پڑھوانا، کو کچھ پڑھ کر سنانے کا فن سکھانا، کو کچھ پڑھنا سکھانا۔ اَقْرَأَہ السلامَ: کو سلام پیش کرنا۔ اِسْتَقْرَأَہ: کو تلاوت یا پڑھنے کے لئے کہنا۔ ــــ ہ: کی تحقیقات کرنا، کی جانچ کرنا، کا جائزہ لینا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا، قُرْء جمع قُرُوء: ماہواری، حیض، ماہواری ہونا، حیض آنا۔ قِرَاءَۃ جمع قراءات: (خصوصاً قرآن کی) تلاوت۔ پڑھنا، قرآن کے متن کی تلاوت کا اسلوب، رموز اوقاف کا استعمال۔ قِرَاءَۃ الکَفّ: دست شناسی، القرآن: قرآن مجید قُرآنی: قرآن کا، قرآن کے متعلق۔ اِسْتِقراء جمع اِستقراءات: تفتیش، بغور مشاہدہ، گہرا مطالعہ، غور و خوض، قارِی جمع قارُون، قُرَّاء: (قرآن) تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا۔ قارئ الکف: دست شناس۔ مَقْرُوء: پڑھا ہوا، صاف جو پڑھا جا سکے، پڑھنے کے لائق یا مستحق، دلچسپ (کتاب وغیرہ) مُقْرِی: قرآن کا قاری، قرآن تلاوت کرنے والا۔

قَرَّاج جمع قَرَاجات: (سعودی عرب کی ہجے کے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مطابق)، گیراج، موٹرخانہ۔

قرب: ۱۔ ــ قَرَبَ ـُ قَرْبًا السيفَ: تلوار کو میان میں داخل کرنا، تلوار کی میان بنانا صفت قَارِبٌ و السيف مَقْرُوْبٌ ـ اَقْرَبَ قِرابًا: میان بنانا۔ القِرَابُ ج قُرُبٌ و اَقْرِبَةٌ: میان۔ القِرْبَةُ ج قِرَبٌ وقِرْبَاتٌ و قِرِبَاتٌ و قِرَاباتٌ: مشک یعنی پانی یا دودھ ڈالنے والا برتن اور مثل ہے۔ لَقِيْتُ مِنْهُ عَرَقَ القِرْبَةِ: یعنی مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی۔

۲۔ قَرِبَ ـَ وقَرُبَ ـُ قُرْبًا و قُرْبَانًا و قِرْبَانًا: قریب ہونا۔ ـــ منه واليه: کے قریب ہونا۔ قَرَّبَ ہٗ: کو قریب کرنا۔ ـــ ہُ الاميرُ: کو اپنے خاص لوگوں میں بنالینا۔ ــ القُرْبَانَ لِلّٰهِ: اللہ کے لئے قربانی کرنا۔ ــ الكاهنُ فلانًا: کو عشائے ربانی دینا۔ (نصرانیہ) ــ فلانًا: کو حَيَّاكَ اللّٰه و قرَّب دارك کہنا۔ قَارَبَ مُقَارَبَةً ہٗ: کے قریب ہونا، سے خوش کلامی کرنا۔ فی الامر: میں غلو کو چھوڑ دینا اور میانہ روی اور سچائی اختیار کرنا۔ اَقْرَبَ الاناءَ: برتن کو بھرنے کے قریب کرنا۔ ـ ت الحاملُ: حاملہ کا جننے کے قریب ہونا۔ تَقَرَّبَ تَقَرُّبًا و تِقِرَّابًا: عشائے ربانی لینا۔ ــ الی اللّٰه بالقربان: سے اللہ کے پاس قربت ڈھونڈنا، کہا جاتا ہے۔ تَقَرَّبْ يَا رَجُلُ: یعنی جلد کرو بقول بعض کے نزدیک یہ لفظ امر کے ساتھ خاص ہے۔ تَقَارَبَا: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ ــ ہٗ: کے قریب ہونا۔ ــ الزرعُ: کھیتی کا پکنے کے قریب ہونا۔ اِقْتَرَبَ الوعدُ: قریب ہونا۔ الشيئانِ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ اِسْتَقْرَبَ الشيئَ: کو قریب سمجھنا۔ القُرْبُ و القَرَابُ: نزدیکی۔ القَرَبُ ج اَقْرَابٌ: کنواں جس کا پانی قریب ہو۔ القُرَابُ: نزدیک۔ ــ قُرَابُ الشيئِ وقِرَابُهٗ: اندازے میں برابر۔ القُرْبَةُ: جگہ اور مرتبہ کی نزدیکی۔ ـــ ج قُرَبٌ و قُرُبَاتٌ: نیک افعال اور اطاعت جن سے اللہ تعالی کی قربت حاصل ہو۔ القُرَبَةُ: نزدیکی، رشتہ داری، کہا جاتا ہے: فی الناء قُرْبَةٌ: برتن بھرنے کے قریب ہے۔ ــ ج قُرَب و قُرُبات: نیک افعال و اطاعت جن سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو۔ القَرابَة: قریب، نزدیک، کہا جاتا ہے: مَاهُوَ بِشَبِيْهِكَ وَلَا بِقُرَابَةٍ مِنْكَ: نہ تو وہ تمہارے مشابہ ہے اور نہ تم سے قریب ہے۔ القُرْبٰی والقَرَابَةُ: رشتہ داری۔ کی نزدیکی القُرْبَانُ ج قَرَابِيْنُ: ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقریب حاصل کیا جائے خواہ وہ ذبیحہ ہو یا کچھ اور ہو، بادشاہ کا خاص ہم نشین۔ القُرْبَانُ مونث قُرْبٰی ج قِرَابٌ من الآنية: برتن جو بھرنے کے قریب ہو، بادشاہ کا خاص ہمنشیں۔ القَارِبُ ج قَوَارِبُ: چھوٹی کشتی، القَرِيْبُ ج اَقْرِبَاءُ و قُرَابٰی مونث قَرِيْبَةٌ ج قَرَائبُ: نزدیک (واحد اور جمع کے لئے) (کہا جاتا ہے هو قريب وهم قريب) رشتہ دار، اشعار کی ایک بحر کا نام ہے جو عجمیوں کے استعمال میں ہے جس کا وزن مفاعیلن، مفاعلین فاعلاتن دو مرتبہ ہے، کہا جاتا ہے جَائُوْ قُرَابٰی: وہ سب قریب قریب آئے اور یہ قریب کی جمع خلاف قیاس ہے۔ الاَقْرَبُ: اسم تفضیل قرب سے۔ اَقْرِبَاءُ الرَّجُلِ واَقَارِبُهٗ و اَقْرَبُوْهُ: قریبی رشتہ دار۔ المُقْرِبُ (فا) من الحوامل ج مَقَارِبُ ومَقَارِيْبُ: حاملہ جس کے جننے کا زمانہ قریب ہو۔ المُقْرَبُ (مفع) مونث مُقْرَبَةٌ من الخيل: عمدہ گھوڑا جس کی خوبی کی وجہ سے اس کے چارے اور باندھنے کی جگہ قریب بنائی جائے۔ المَقْرَبُ: مختصر راستہ۔ المَقْرِبَةُ والمَقْرُبَةُ: قرابت، مختصر راستہ المَقْرِبة: قرابت۔ المُقَارِبُ (فا): جید اور ردی کا درمیانہ، درمیانی حالت والا۔ ـــ المُحنی (ہ): جومیٹری کی ایک اصطلاح المُقَارَب (مفع) من المتاع: سستا سامان۔ المُتَقَارِبُ (فا): ایک بحر کا نام ہے جس کا وزن فعولن آٹھ مرتبہ ہے۔

۳۔ قَرِبَ ـَ قَرَبًا: کوکھ کے درد والا ہونا۔ قَرَّبَ الرجُلُ: کوکھ کے درد والا ہونا۔ تَقَرَّبَ تَقَرُّبًا و تِقِرَّابًا الرجُلُ: کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔ القُرْبُ و القُرُبُ ج اَقْرَابٌ (ع ا): کوکھ۔

۴۔ قَرَّبَ الفرسُ: دلکی چلنا یعنی عام چال سے تیز اور دوڑ سے کم رفتار۔ التَّقْرِيْبُ (مص): دوڑ کی ایک قسم کا نام۔

۵۔ اَقْرَبَ الراعی الابلَ: گھاٹ پر پہنچنے کے لئے اونٹوں کو رات کو لے کر چلنا، راعی کو قَارِبٌ کہتے ہیں مُقْرِبٌ نہیں اور اونٹوں کو قَوَارِبُ: کہتے ہیں مُقْرَبَةٌ نہیں القَرَبُ و القِرَابَةُ: گھاٹ پر پہنچنے کے لئے رات میں چلنا۔ القَارِبُ: رات کو پانی ڈھونڈنے والا۔ المَقْرَبُ: رات میں چلنا۔

۶۔ القَرَنْبٰی (ح): لمبی ٹانگوں والا کیڑا جو گبریلا کے مشابہ ہوتا ہے۔ المُتَقَارِبُ: چھوٹے قد کا مرد۔

۷۔ القَرَبُوْسُ ج قَرَابِيْسُ: زین کا آگے پیچھے بلند حصہ۔ یوں یہ دونوں حصے قربوسان کہلاتے ہیں۔

○ مايقرب من: تقریبا، کے قریب، لگ بھگ، کچھ، کوئی، قَرَّبَ من / اِلی ہ: کسی کے کچھ ذہن نشین کرنا۔ ــ ہ من: کسی کو اپنا ساتھی، ساجھی، شریک کار یا ہم صحبت بنانا۔ ــ ہ کو مزید پوری طرح منکشف کرنا، (تصور) کو واضح کرنا، کا سمجھنا آسان کرنا۔ ــ ل ہ: اللہ کے لئے قربانی پیش کرنا۔ ـــ ہ: کو عشائے ربانی دینا (عیسائیت میں) قَرَّبَ بينهم: لوگوں کو آپس میں مزید قریب لانا، لوگوں میں مصالحت کرانا۔ قُرْب: نزدیکی، قرابت، قرب، گردونواح، قرب و جوار، نواح، قُرْبَ: کے گرد ونواح میں، کے قریب، کے نزدیک۔ قُرْبَ الظُهر: دوپہر کے قریب بالقرب من یا بِقُربِ: کے قرب وجوار میں، کے نزدیک، کے آس پاس۔ عن قُرب: تھوڑے فاصلے سے، نزدیک سے۔ قُرْبَى: رشتہ، رشتہ داری۔ ذو القُرْبَى جمع ذوو القُرْبَى: رشتہ دار، قريب من / اِلی: کے قرب و جوار میں، کے نزدیک، قریب، سے متصل، ملحق، ملا ہوا۔ ــ: سادہ، آسانی سے، سمجھ میں آنے والا جمع اَقرباء: رشتہ دار۔ قريباً: جلد، جلدی، تھوڑی ہی دیر بعد، مستقبل قریب میں، حال ہی میں، ابھی کچھ عرصہ قبل، ابھی اگلے ہی روز، من قريب یا عما قريب: جلد، جلدی، تھوڑی ہی دیر بعد، مستقبل قریب میں۔ لا ـــ من قريب او بعيد: کم از کم نہیں، فی القريب العاجل: قریب ترین مستقبل میں۔ قَريب من الحَسَن: کافی، کافی اچھا (سکول کی رپورٹ کے مطابق) قريبُ العهد: نیا، حال کا، حالیہ، جوان، نوجوان۔ من عهدٍ قريب: حال کا، حالیہ تاریخ کا، حال ہی میں، کچھ عرصہ قبل، اگلے ہی روز۔ قريبُ العهد ب: حال ہی میں کچھ اکتساب یا اختیار کیا ہوا، سے کچھ عرصہ قبل ہی واقف، شناسا، آشنا یا آگاہ ہونے والا، میں نا تجربہ کار، اناڑی، نوآموز۔ قريب التناول: سمجھنے میں آسان۔ قِرَاب جمع قُرُب واَقْرِبَة: (تلوار کی) نیام، میان، ظرف، کوئی شے رکھنے کے لئے ڈبہ، بوتل وغیرہ، چیز دان، کیس، پوش، پوشش۔ قَرابَة: رشتہ، رشتہ داری۔ قُرابَةَ ثلاثة اعوام: تقریباً تین سال، قُربان جمع قَرَابين: قربانی، نذر، نذرانہ، عشائے ربانی کی رسم، نماز یا دعا، روٹی اور شراب پر مشتمل متبرک اجزاء Euchzist۔ قربانُ الشكر: نذرانہ شکر۔

تناول القربان: عشائے ربانی وصول کرنا، قَدَّم القربانَ عن یا رفع القربان علی: کسی کے لئے عشائے ربانی کی دعا پڑھنا۔ قُربانة: عشائے ربانی کے موقع پر مائدہ مقدسہ (پاکیزہ روٹی)، عشائے ربانی اقرب اِلی الفهم: سمجھنے میں زیادہ آسان، زیادہ قابل فہم۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

هو اقرب اِلي الصِحَّةِ(يا الصَوَاب) یہ بالکل اغلب ہے۔ یہ کافی صحیح ہے۔ یہ کسی حد تک درست ہے، یہ صحت یا صداقت کے کافی قریب ہے۔ فی أَقرَبِ وقت ممکن جتنی جلدی ممکن ہوا۔ بأقرب ما یمکن: کم سے کم ممکن وقت میں۔ مَقْرَب ج مَقَارِب: قریب ترین یا مختصر ترین راستہ۔ علی مَقْرَبَہ: قریب ہی۔ على مقربةِ من: کے گرد و نواح میں، کے قریب تقریباً بوجه التقريب، بالتقريب یا على التقريب: تقریباً لگ بھگ، قریب قریب، محسوس تقریباً: بالکل قابل ادراک، تقریبی: متصل، قریب، تقریباً۔ مُقَرَّب قریبی ساتھی، منظور نظر، زیر حمایت شخص، گہرا دوست، جگری دوست۔ مُتَقَارِب باہم قریب، لگا تار، متواتر، مسلسل، پے در پے، بعد کا، اگلا۔ مُقَارِب اندازہ کیا ہوا، اوسط درجے کا، درمیانی قسم کا۔

۲۔ قَارِب ج قَوَارِب: کشتی، ہلکی کشتی، قارِبُ الزُبْدَة چھوٹی کشتی، (ٹرے) جس میں پگھلا ہوا مکھن رکھا جاتا ہے۔ قارِب مُسَلَّح: گن بوٹ (Gun- boat) قارب النَجَاة: بچاؤ کشتی۔ قارب التنقيب عن الالغام: سرنگیں ہٹانے یا صاف کرنے والی کشتی۔ قَارِبٌ ناری موٹر بوٹ۔ قَوَارِبی: کشتی والا، کشتی بان، مانجھی۔ قَرَبِينَة ج قربينات قرابین (چھوٹی رائفل جو گھڑ سوار استعمال کرتے ہیں)۔

قرت ۱۔ قَرَتَ ـِ قَرْتًا و قُرُوْتًا الدمُ: تہہ بہ تہہ خون خشک ہونا، زخم میں خون کا خراب ہو جانا، مار کی وجہ سے بدمی پڑ جانا۔ قَرِتَ ـَ قَرَتًا الدم: بمعنی قَرَتَ۔ الظفرُ: خون کا ناخن میں بگڑ جانا۔ ــــ الرجُلُ: غم یا غصہ کی وجہ سے کے چہرہ کا متغیر ہونا۔ القَرَتُ (مص): برف۔ دَمٌ قَارِتٌ: کھال اور گوشت کے درمیان خشک ہونے والا خون۔

۲۔ قَرَتَ ـُ قُرُوْتًا الرجُلُ: خاموش ہونا۔

۳۔ القَارِتُ: جو چیز ملے اسے کھانے والا۔ ــــ و القَرَّاتُ: عمدہ مُشک۔ المقْتَرِتُ: جو چیز ملے اسے کھا جانے والا۔

قرث: قَرَثَ ـُ قَرْثًا ہُ الامرُ: پر سخت ہونا۔ قَرِثَ ـَ قَرَثًا الرجُلُ: محنت کرنا اور کمانا۔ القِرِّيْثُ (ح): مچھلی کی ایک قسم۔

قرح ۱۔ قَرَحَ ـَ قَرْحًا و قَرَّحَ ہُ: کو زخمی کرنا۔ قَرِحَ ـَ قَرَحًا: پھوڑوں والا ہونا، کہا جاتا ہے۔ قَرِحَ قَلْبُہٗ مِنَ الحُزْنِ: اس کا دل غم سے زخمی ہو گیا۔ اَقْرَحَ ہُ اللّٰہُ: کے جسم میں پھوڑے نکالنا۔ تَقَرَّحَ الجسدُ: پھوڑے والا ہونا۔ القَرْحُ (مص) ج قُرُوْحٌ: زخم، پھوڑا، سخت کھجلی جو اونٹ کے بچوں کو ہلاک کر دے۔ القَرَحَ (مص): اونٹ کو خارش اور انسان کو چیچک ہونے کی حالت۔ القَرِحُ: پھوڑوں والا۔ القُرْحَةُ و القَرْحَةُ: پرانا پھوڑا جس میں پیپ جمع ہو۔ القُرْحَان من الناس: وہ شخص جس کو چیچک ہو (واحد اور جمع کے لئے) الاَقْرَحُ: اسم تفضیل۔ القَرِيْحُ ج قَرْحی و قَرَاحی: زخمی۔ المَقْرُوْحُ و المُقَرَّحُ: پھوڑوں والا۔

۲۔ قَرَحَ ـَ قَرْحًا و قَرَّحَ البئرَ: جہاں کھدائی نہ ہوئی ہو کنواں کھودنا۔ اِقْتَرَحَ البئرَ: جہاں کھدائی نہ ہوئی ہو یا جہاں پانی نہ ہو کنواں کھودنا۔ ــــ الامرَ: کو بغیر کسی نمونہ کے ایجاد کرنا۔ ــــ الشیئَ: بغیر سننے کے اپنی طرف سے استنباط کرنا، چننا، اختیار کرنا۔ البعیرَ: جس اونٹ پر کوئی سوار نہ ہوا ہو سوار ہونا۔ ـ الخطبةَ: فی البدیہہ خطبہ دینا ــــ علیه کذا او بکذا: سے سختی کے ساتھ اور بغیر سمجھے بوجھے سوال کرنا اِقْتَرَحَ علیه کذا: سے کچھ بنوانے کی خواہش کرنا کہا جاتا ہے۔ اِقْتَرَحَ عَلَيْهِ صَوْتَ كَذَا: اس نے اس سے فلاں آواز گانے کی خواہش کی۔ القُرْحُ: ہر چیز کا اول، نئے کنویں کا پہلا پانی، مہینے کی ابتدائی تین راتیں۔ قُرْحَةُ الشتاء او الربیع: سردی یا بہار کی ابتدا۔ القَرِيْحُ: پہلا بادل جو ظاہر ہو۔ القریحَة ج قَرَائِحُ: ہر چیز کی ابتدا، کنویں کا پہلا پانی۔ ـ من الانسان: طبیعت۔ قَرِيْحَةُ الشَاعِرِ اوِ الكَاتِبِ: ملکہ راسخہ کہا جاتا ہے لفلان قريحة جيدة و هو حسن القريحة یعنی فلاں کی طبیعت شعر و شاعری کی طرف میلان رکھتی ہے اور وہ اچھا شوق رکھتا ہے۔

۳۔ قَرَحَ ـَ قُرُوْحًا و قِرَاحًا الفرسُ: گھوڑے کا پانچ سال کا ہونا۔ ــــ ت الناقةُ: اونٹنی کا حمل ظاہر ہونا صفت قَارِحٌ۔ قَرِحَ ـَ قَرَحًا الفرسُ: گھوڑے کا پانچ سال کا ہو جانا۔ ــ ت سِنُّ الصبی: لڑکے کے دانت نکلنے کے قریب ہونا۔ قَرَّحَ النباتُ: کونپل نکالنا ــــ ت الارضُ: زمین کا سبزہ نکلنا شروع ہونا۔ أَقْرَحَ الفرسُ: گھوڑے کا پانچ سالہ ہونا۔ القَارِحُ (فا): کمان جو تانت سے دور ہو۔ ــــ من ذی الحافر ج قَوَارِحُ و قُرَّحُ و مَقَارِيحُ مونث قَارِحٌ و قَارِحَةٌ ج قَارِحَاتٌ و قَوَارِحُ: جس کے پورے دانت نکل آئے ہوں قَارِحُ الفَرَسِ: وہ دانت جس کے نکلنے کے بعد اس کو قارح کہا جاتا ہے۔ القُرْحَةُ فی وجه الفرس: گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی، کہا جاتا ہے هُوَ اُقْرَحُ اَصْحَابِه: ساتھیوں میں ممتاز ہے۔ الاَقْرَحُ: صبح۔ فَرَسٌ اَقْرَحُ: وہ گھوڑا جس کی پیشانی میں درہم کے برابر یا اس کے کم سفیدی ہو مونث قَرْحَاءُ ج قُرْحٌ رَوْضَةٌ قَرْحَاءُ: سبزہ زار، سفید پھولوں والا باغ۔ قَرِيْحُ السحابة: بارش بوقت نزول۔ المَقْرُوْحُ (مفع) من الطُرُق: واضح راستہ۔

۴۔ قَرَحَ ـَ قَرْحًا ہُ بالحق: کے ساتھ حق سے پیش آنا۔ قَارَحَ مُقَارَحَةً ہُ: کے رو در رو ہونا۔ تَقَرَّحَ للامر: کے لئے تیاری کرنا۔ المُقَارَحَةُ (مص): کہا جاتا ہے لقیته مُقَارَحَةً یعنی میں اس سے براہ راست ملا۔

۵۔ القَرَاحُ ج اَقْرِحَةٌ: خالص پانی، بے آب و گیاہ زمین۔ القُرْحَانُ: جو کبھی جنگ میں شریک نہ ہوا ہو۔ ــــ من الابل: اونٹ جس کو کبھی خارش نہ ہوئی ہو، کہا جاتا ہے انت قُرحان من الامر تم معاملہ سے علیحدہ ہو۔ القُرَاحِيُ: جو ہمیشہ بستی میں ہے اور جنگل کی طرف نہ جائے، جو کبھی جنگ میں شریک نہ ہوا ہو، کہا جاتا ہے۔ انت قراحی من الامر تم اس معاملے سے علیحدہ ہو، صفت مونث۔ قُراحِيَّةٌ: القُرَاحِيَان دونوں کوکھ۔ القَارِحُ (ح): شیر۔ القَرِيْحُ: خالص پانی وغیرہ۔

۞ اِقْتَرَحَ ہ: کو ایجاد کرنا، وجود میں لانا، کا موجد ہونا۔ (تقریر) برجستہ کرنا۔ علی ب / ہ: نے تحکمانہ انداز میں کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ ــــ علی ہ: کو کی تجویز پیش کرنا۔ قَرْحٌ جمع قُرُوح زخم، ناسور، پھوڑا۔ قَرِح: ناسوروں سے ڈھکا ہوا، پیپ دار، قَرْحة جمع قِرَح: ناسور، پھوڑا، دنبل، پھنسی۔ قَرَاح پاک، صاف، شفاف، نتھرا ہوا، (پانی بالخصوص) قَرِيح: بمعنی بالا۔ قَرِيْحَة جمع قَرَائِح: طبیعت، مزاج، افتاد طبع، پیدائشی مزاج، افتاد طبع، رغبت، میلان، رجحان، غیر معمولی ذہانت صلاحیت، ملکہ، حاسہ۔ اِقْتِرَاح ایجاد، جو ہاتھ لگے، بنا دینا، جمع اقتراحات: تجویز، مسئلہ، اشارہ، ایہام، ایجاد، تحریک، قرارداد۔ مُقْتَرَح جمع مقترحات: بمعنی بالا۔ مُقَرَّح و مُتَقَرِّح ناسور زدہ۔

قرد: قَرَدَ ـَ قَرْدًا المالَ: مال جمع کرنا، کمائی کرنا۔ ــ فی السقاء: مشکیزہ میں دودھ یا گھی جمع کرنا۔ قَرِدَ ـَ قَرَدًا و تَقَرَّدَ الشَعَرُ: بالوں کا گھنگھریالے ہونا، ایک پر ایک جم کر نمدہ جیسا ہو جانا۔ القَرَدُ: واحد قَرَدَة: اون یا کتان کا ردی حصہ۔ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ القَرِدُ: گھنگھور گھٹا۔

۲۔ قَرِدَ ـَ قَرَدًا الادیمُ: ادھوڑی کا کرم خوردہ ہونا۔ ـ الکحلُ فی العین: سرمہ کا پراگندہ ہونا۔

nrarrat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۳۔قَـرِدَ ـَـ قَرَدًا: درماندگی سے خاموش رہنا۔زمین سے چمٹنا۔قَرَّدَ بمعنی قَرِدَ ـــ البعیرَ: اونٹ سے چیچڑی نکالنا۔ ہٗ: کودھوکہ دینا یہ قَرَّدَ البعیرَ سے ماخوذ ہے کیونکہ جب انسان سرکش اونٹ کو قابو کرتا ہے تو پہلے اس کے بالوں سے چیچڑی نکالتا ہے۔ـــ الیہ: کا تابعدار ہونا۔اَقْرَدَ: زمین سے چمٹنا۔البعیرُ: چیچڑی والا ہونا۔ایسی نرم چال چلنا جس سے سوار کو حرکت نہ ہو۔المتحرکُ: ساکن ہونا۔ـــ الیہ: کا تابعدار ہونا۔القُرْدُ و القُرادُ واحد مونث قُرْدَةٌ و قُرادَةٌ ج قِرْدانٌ (ح): چیچڑی جیسے انسان میں جوئیں ہوتی ہیں کہا جاتا ہے نزعت قُرادَ فلان: یعنی میں نے اس کو فریب دیا۔القَرَدُ: زبان کا ہکلا پن۔القَرِدُ من الابل: بہت چیچڑیوں والا اونٹ۔رَجُلٌ قَـرُودٌ: ساکن مرد۔

۴۔قَـرِدَ ـَـ قَرَدًا ت اسنانُہٗ: چھوٹے ہونا اور مسوڑھے سے ملے ہوئے ہونا۔رَجُلٌ قَرِدُ الفم: پیدائشی چھوٹے دانتوں والا۔

۵۔قَرِدَ ـَـ قَرَدًا العِلْكُ: گوند کا بدمزہ ہونا۔

۶۔القِرْدُ: پستہ قد (ع ا) گردن (معرّب)۔ القِرْدُ ج اَقْرادٌ و اَقْرُدٌ و قُرُودٌ و قِرَدٌ و قِرَدَةٌ مونث قِرْدَةٌ ج قِرَدٌ (ح): بندر، لنگور، عوام اسے شیطان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلانٌ کالقِرْدِ: فلاں تو شیطان جیسا ہے ایسے ہی کسی پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں یاقِرْد۔القَرَدُ واحد قَرَدَةٌ: پتی اتاری ہوئی کھجور کی شاخ۔القُرادُ (ع ا): پستان کا سرا۔القَرّادُ: بندر والا۔

۷۔قَـرْدَحَ قَرْدَحَةً: جو چیز مانگی جائے اس کا اقرار کر لینا، فرمانبردار ہونا اور باستعمال عوام ہتھیار بنانا اور ان کو درست کرنا (سریانیہ)۔اِقْرَنْدَحَ لَہٗ: پر الزام لگانا۔القِـرْداحِـيُّ و القِرْدَحْجيُّ: ہتھیار بنانے اور درست کرنے والا (پہلا لفظ سریانی اور دوسرا ترکی ہے)۔القُـرْدُحُ و القُـرْدُوحُ: بڑا بندر، لنگور۔القُرْدُحَةُ و القُرْدُوحَةُ: نوجوان کے گلے کا ٹیٹوا۔المُقْرَنْدِحُ: (فا) آمادہ شرارت۔

۸۔القَـرْدَدُ ج قَرادِدُ: سخت اور بلند زمین کہا جاتا ہے۔جاء بالحدیث علی قردده: اس نے بات کو اپنے موقع پر کہا۔القُـرْدُودُ ج قَرادِيدُ: سخت اور بلند زمین۔(ع ا): انسان کی پیٹھ کا وسط۔القُرْدُودَةُ ج قَرادِيدُ: سخت اور بلند زمین۔قُرْدُودَةُ الظهر: پیٹھ کا اعلیٰ حصہ۔قُرْدُودَةُ الشِّتاءِ: موسم سرما کی شدت۔القِرْدِيدَةُ ج قَرادِيدُ (ع ا): پیٹھ کے درمیان کا خط۔(ع ا): مرد کا سر، پہاڑ کی چوٹی۔

۹۔قَرْدَسَ قَرْدَسَةً: کو مضبوط باندھنا۔جَرْوَالکلبَ: کتے کے پلے کو بلانا۔القَرْدَسَةُ (مص): سختی، شدت۔القُرَيْدِسُ (ح): ایک چھوٹی سی مچھلی۔

۱۰۔القُرْدُعَةُ: خواری، ذلت۔القِرْدِعَةُ (ع ا): گردن کہا جاتا ہے۔اخذ بِقِرْدِعَتِہ: اس نے اس کی گردن پکڑ لی۔

قرز: ۱۔قَرَزَ ـُـ قَرْزًا ہٗ: کھرچنا۔التراب و نحوہٗ: کو انگلیوں سے لینا۔القَرْزُ (مص): ٹیلہ، سخت زمین۔القُرْزَةُ: مٹھی۔

۲۔قَـرْزَمَ الشاعرُ شِعْرَہٗ: ردی شعر کہنا۔القِرْزامُ: گھٹیا شاعر۔المُقَرْزَمُ: حقیر، لئیم، فرومایہ۔رجل مقرزم: گھٹے ہوئے بدن کا پستہ قد مرد۔

○ قِـرد جمع قِـرَدَة و قُرُود: بندر، بے دم کا بندر، بوزنہ۔قُـرد واحد قُـرْدة: چچڑی قُـراد واحد قُـرادة جمع قِـردان: چچڑی ابو قـردان: سفید بگلا۔ White Egret مَقْرُود: تھکا ماندہ۔

قرس: ۱۔قَرِسَ ـَـ قَرَسًا الماءُ: پانی کا منجمد و سرد ہونا۔البردُ: سخت ٹھنڈک ہونا۔المَقْرُوْرُ: سخت سردی کی وجہ سے ہاتھ سے کام نہ کر سکنا۔قَـرِسَ ـَـ قَرَسًا البردُ: تیز جاڑا ہونا۔الرجلُ: ٹھٹھرنا۔قَرَّسَ البردُ فلانًا: کو ٹھٹھرا دینا ـــ الماءَ: کو جما دینا اَقْرَسَ العودُ: لکڑی کی تری کا اس کے اندر جم جانا۔البردُ اَصابِعَہٗ: سردی کا کی انگلیوں کو سن کر دینا۔اور اس کا اُن سے کام نہ کر سکنا ـــ البردُ فلانًا: سردی کا کسی کے لئے ناقابل برداشت ہونا ـــ الماءَ: کو جما دینا۔القَارِسُ (فا): سخت سرد۔القَرْسُ: سخت سردی۔القَرَسُ و القَرِيسُ: سخت سردی، جما ہوا، کہا جاتا ہے۔اصبح الماءُ قریسًا: پانی جم گیا۔

۲۔القِـرْسُ (ح): چھوٹے مچھر، شیئ فـارس و قریس: پرانی چیز۔القُراسُ و القُراسِيَةُ من الابل و غیرھا: موٹا، مضبوط اونٹ وغیرہ کہا جاتا ہے لہم مُلْكٌ قُـراسِيَةٌ و عِزٌّ قُراسِيَةٌ: ان کی مضبوط مملکت اور پائیدار عزت ہے۔القَراسِيا (ن): ایک درخت جس کا پھل کالے انگور کی مانند ہوتا ہے یہ صاد سے بھی لکھا جاتا ہے۔

○ قَـرس ـ قَـرَسا: (سردی کا) سخت، شدید، تکلیف دہ ہونا، خوفناک ہونا۔قَـرَّس ۱۰ ھ: (سردی کا) کسی شخص یا چیز کو منجمد کرنا، بے حس و حرکت کرنا، سن کرنا، شل کرنا، (پودوں) کو متاثر کرنا۔قارس: سخت، شدید، تکلیف دہ (سردی)، بہت سرد، سخت سرد، منجمد، منجمد کن۔

قرش: ۱۔قَـرَشَ ـِـ قَرْشًا الشیئَ: ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے یکجا کرنا ـــ لعیالہ: کے لئے کمائی کرنا۔قَرَّشَ لعیالہ: کے لئے کمائی کرنا ـــ ہٗ: کو قریش کی طرف منسوب کرنا ـــ الدراھمَ: درہم گننا (عامیہ)۔قارَشَ ہٗ: کو ملانا۔تَقَرَّشَ المالَ: کو جمع کرنا ـــ لعیالہ: کے لئے کمائی کرنا ـــ الشیئُ: چمٹنا ـــ القومُ: قوم کا جمع ہونا۔اِقْتَرَشَ لعیالہ: کیلئے کمائی کرنا۔القَرْشُ ج قُرُوشٌ: ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوا القِرْش جمع قُروش: پیاسٹر، ایک ترکی سکہ۔قُرَيْشٌ عرب کا ایک مشہور قبیلہ نسبت کے لئے قُـرَشِـيٌّ یا قُرَيْشِيٌّ۔المُقَـرِّشَةُ من السنین: سخت قحط کا سال۔

۲۔قَـرَشَ ـِـ قَرْشًا الجیشَ بالرماح: نیزہ مارنا۔تَـقَـرَّشَ ت الرماحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں گھتنا۔تَـقَـارَشَ القومُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا اور اس سے جھنکار پیدا ہونا۔ـت الرماحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں ٹکرانا گھتنا۔اِقْتَرَشَ ت الرماحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں گھتنا۔قَرْشُ الشیئ: چیز کی آواز۔رِماحٌ قَوارِشُ: لڑائی میں گھسے ہوئے نیزے۔

۳۔قَرَشَ ـِـ قَرْشًا ہٗ: کو کاٹنا۔قَرَّشَ الحلیبُ: دودھ کا چھدڑی بن جانا (عامیہ)۔تَـقَرَّشَ عن السیئاتِ: برائیوں سے پرہیز کرنا، بچنا۔القِـرْشُ و القُرَيْشُ (ح): ایک قسم کی مچھلی جس کو کلب البحر بھی کہتے ہیں جو پانی کے اندر جانوروں کو اپنے دانت سے تلوار کی طرح کاٹ دیتی ہے اس سے تمام سمندری جانور ڈرتے ہیں۔القُرَيْشَةُ: کھٹا پنیر۔

۴۔قَـرَشَ ـِـ قَرْشًا من الطعام: تھوڑا سا کھانا پانا۔اَقْرَشَ تْہُ الشَّجَّةُ: ــ کے زخم کا بغیر چورہ کئے ہڈی توڑنا۔تَقَرَّشَ الشیئَ: کو اول اول لینا۔

۵۔قَـرَّشَ بینھم: ایک کو دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنا، اکسانا، چغلی کھانا۔قارَشَ: تعرض کرنا (عامیہ)۔اَقْـرَشَ بـہٖ: کی چغلی کھانا، کے عیوب ظاہر کرنا۔اِقْتَـرَشَ بـہٖ: کی چغلی کھانا، کو نقصان پہنچانے کیلئے کوشش کرنا۔

○ قِرْش: شارک (مچھلی کی ایک قسم) جمع قُرُوش: ایک سکہ، قرش صاغ 1/100 پاؤنڈ انگریزی کی مالیت کا معیاری سکہ۔قرش تعریفۃ: نصف قرش صاغ۔قُرَيْش: مکہ کا ایک عرب قبیلہ قُرَشِي: قریش قبیلہ یا اس کے متعلق، قریشی (شخص) قُـرَيـش و قُرَيْشَة

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کھٹی پنیر۔ مُقْرِش: دولتمند، مال دار، امیر، آسودہ حال، مرفہ الحال۔

قرص ا۔ قَرَصَ ـُ قَرْصًا لحمَهُ: کی چٹکی لینا۔ ـــ ہٗ بلسانہ: کو تکلیف دہ کلمات کہنا۔ ـــ الثوب بالماء: انگلیوں کے پوروں سے دھونا۔ ـــ ت المرأۃ الثوب عند العامۃ: صرف میل والی جگہ سے کپڑا دھونا نہ کہ سارا کپڑا دھونا۔ ـــ البرغوث: پسو کا کاٹنا۔ ـــ تہ الحیّۃ: کو سانپ کا ڈسنا۔ قرص ـــ قرصًا: ہمیشہ غیبت کرنا اور تکلیف دہ کلمات بولنا۔ قَارَصَ ہٗ و تقارَصَا: ایک دوسرے کی چٹکی لینا۔ القارِصُ (فا) (ح): مچھر کی مانند ایک جانور۔ القارِصۃ ج قوارِص: القارص کا مونث۔ ـــ کلمۃ قارصۃ: تکلیف دہ کلمہ۔ القُرّاص واحد قُرّاصۃ (ن): ایک روئیں دار گھاس جس کے چھونے سے تکلیف ہوتی ہے یہ خصوصاً گھروں کے آس پاس اور باغات کے اطراف میں اگتی ہے اس پر باریک باریک کانٹے ہوتے ہیں جب انسان اسے چھوتا ہے تو گوشت میں چبھ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں پھر اس سے ایک سیال مادہ بہتا ہے جس سے ہاتھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس گھاس کو پکا کر لوگ کھاتے بھی ہیں عام لوگ اسے قُرَیص کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اَحْمَرُ قُرّاص: سخت سرخ۔ ـــ لجامٌ قُرّاص و قَرُوص: وہ لگام جو جانور کو تکلیف دے۔ القُرُوصۃ: زبان کو چھیل دینا۔

۲۔ قَرَصَ ـِ قَرْصًا و قَرَّصَ الشیئَ: کو کاٹنا۔ ـــ العجینَ: گندھے ہوئے آٹے کے پیڑے بنانا۔ القُرْصُ ج اَقْراصٌ و قِرَصۃٌ و قِرَاصٌ، و القُرْصَۃُ ج قُرَصٌ: روٹی کی ٹکیا۔ ـــ قُرْص الشمس: آفتاب کی ٹکیہ کہا جاتا ہے۔ غاب قرص الشمس: آفتاب کی ٹکیہ غائب ہوگئی۔ المِقْراص: ٹیڑھے سر کی چھری۔ المُقَرَّص (مفع) من الحلی و غیرھا: ٹکیہ کے مانند گول زیور۔

۳۔ القُرّاص (ن): بابونہ۔ القُرْصانُ: بحری ڈاکو بعض لوگ اس لفظ کو واحد کہتے ہیں اور اس کی جمع کے لئے قَراصِنہ کا لفظ بولتے ہیں اور اس سے اسم قَرْصَنۃ ہے (ایطالیہ)۔ القُرَیْص: کشتی کا لنگر۔ القَراصیا او القَراسیا (ن): ایک پھل آور پودا ہے لبنان اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں اگایا جاتا ہے اس کا پھل چھوٹا اور سیاہی مائل ہوتا ہے (یونانی لفظ)۔

۴۔ قَرْصَبَ قَرْصَبَۃً ہٗ: کو قطع کرنا، کاٹنا۔

۵۔ قَرْصَعَ قَرْصَعَۃً: سکڑنا، پوشیدہ ہونا، بخل کی وجہ سے تنہا کھانا۔ ـــ فی بیتہ: میں بیٹھنا اور سمٹنا ـــ زیدًا فی ثیابہ: کو اس کے کپڑوں میں لپیٹنا۔ اِقْرَنْصَعَ الرجلُ: کپڑوں میں لپٹنا، سکڑنا اور چھپنا۔

۶۔ قَرْصَعَ قَرْصَعۃً الکتابَ: سطروں کو قریب قریب کرنا اور باریک لکھنا۔

۷۔ تقَرْصَعَتِ المرأۃُ: بری چال چلنا۔

۸۔ القِرْصِعْنۃ و القِرْصَعْنۃ (ن): ایک قسم کی خاردار سبزی جو شوکۃ ابراہیم کے نام سے معروف ہے اس کے پھول گھنے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بعض قسموں کو تزئین و آرائش کے لئے اُگایا جاتا ہے اور اس کی ایک قسم خاردار نہیں اس کے پتے سلاد کے طور پر کھائے جاتے ہیں۔

۹۔ تقَرْصَفَ و اِقْرَنْصَفَ: جلدی کرنا۔

۱۰۔ قَرْصَمَ ہٗ: کو کاٹنا، توڑنا۔

ن قُرص جمع اقراص: روٹی کا گول اور چپٹا ٹکڑا، گول چپٹی پلیٹ، ڈسک، ٹکیا، چکر، گراموفون ریکارڈ، چرخی، تکلی، ٹکیہ، گولی۔ قرص الارقام: (ٹیلیفون کا) ڈائل۔ اقراص عَجْوَۃ: بادام اور کھجوروں اور گندھے ہوئے آٹے سے بنائی ہوئی پیسٹری۔ قرص عَسَل: شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔ جَلَبَ النارَ لِقُرصہ: اپنا گھر بھرنا، اپنا مفاد خوب سمجھنا۔ قُرْصِیُّ الشکل: ٹکیہ کی شکل کا۔ قُرْصَۃ جمع قُرَص: روٹی کا گول اور چپٹا ٹکڑا۔ قَرْصَۃ جمع قَرَصات: چٹکی، نوچ کھسوٹ، مچھر پسو وغیرہ کا کاٹنا، ڈنک، نیش، سبلی، گدالا، اڑا، لیور، بیرم۔ قُرَیْص: ڈنک مار پودا۔ قُرّاصۃ: موچنا، چٹکی۔ قَراصِیَۃ: چھوٹے سیاہ آلوچے، خشک آلوچے۔ قارِص: ڈنک مار، کاٹنے والا، تکلیف دہ، چبھتی ہوئی (سردی)۔ قوارِصُ الکلمات: کاٹ دار الفاظ۔ قَرْصَنۃ: قزاقی، کھلے سمندر میں رہزنی، ڈاکہ، لوٹ، بحری ڈاکہ۔ قُرْصان جمع قَراصِن و قَراصِین: بحری ڈاکو، قزاق۔

قرض ا۔ قَرَضَ ـِ قَرْضًا الشیئَ: کو کاٹنا کہا جاتا ہے۔ قَرَضَ رباطَہٗ یعنی مرگیا۔ ـــ الوادی: وادی کو طے کرنا ـــ ہٗ: کو بدلہ دینا ـــ الشعرَ: شعر کہنا۔ ـــ الفارُ الثوبَ: چوہے کا کپڑے کو کترنا۔ قَرِضَ ـَ قَرَضًا: مرنا۔ قَرَّضَ الشیئَ: کو کاٹنا۔ ـــ فلانًا: کی مدح کرنا، مذمت کرنا۔ ـــ الفارُ الثوبَ: چوہے کا کپڑے کو کترنا۔

قارَضَ قِراضًا و مُقارَضَۃً ہٗ: کو بدلہ دینا، کی برائی کا برائی سے مقابلہ کرنا۔ ـــ ہٗ فی المال: کے مال سے تجارت کرنا اور نفع میں شریک ہونا۔ اَقْرَضَ ـــ ہٗ: کو [illegible]

قرض لینا۔ تقارَضَ الرجلان: ایک دوسرے کو برائی یا بھلائی کا بدلہ دینا، کہا جاتا ہے تقارَضَ القِرنانِ النظرَ یعنی ہر ایک نے دوسرے کو کڑی نگاہ سے دیکھنا۔ ـ تقارَضا الثناءَ: ہر ایک کا دوسرے کی تعریف کرنا۔ تقارَضا الشِعرَ: اپنے اپنے اشعار پڑھنا۔ اِقْتَرَضَ عِرضَہٗ: کی غیبت کرنا۔ ـ منہ: سے قرض لینا۔ اِنْقَرَضَ: ختم ہونا۔ ـ القومُ: سب کا ہلاک ہوجانا، کسی کا باقی نہ رہنا۔ اِسْتَقْرَضَ منہ: سے قرض مانگنا۔ القَرْضُ و القِرضُ ج قُرُوضٌ: اچھا یا برا عمل جو پیش کیا جائے، جو مال تم کسی کو اس شرط پر دو کہ وقت معینہ پر تم کو واپس کردے۔ القُراضۃ: کاٹنے میں جو گرے جیسے سونے کے ذرات اور کپڑے کی دھجی وغیرہ قُراضۃُ المالِ: ردی مال۔ القَرّاضۃ: لوگوں کی غیبت کرنے والا، (ح) کیڑا جو اون کو چاٹ جاتا ہے۔ القَرِیضُ: کاٹا ہوا، شعر، جگالی۔ التَقْرِیضُ: شاعری۔ المِقْراضُ ج مَقارِیضُ: قینچی۔ اِبنُ مِقْرَضٍ: نیولے کے مانند ایک جانور جو اس سے بڑا اور سفید زردی مائل ہوتا ہے اور چوہے، خرگوش اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔

۲۔ قَرَضَ ـِ قَرْضًا ہٗ: کے مقابل ہونا۔ المکانَ: سے علیحدہ ہونا۔ ـ فی سیرہٖ: چلنے میں دائیں بائیں ہونا

۳۔ المِقْرَضُ: تھوڑی کھیتی، بڑے مٹکے شراب کے برتن۔

۴۔ قَرْضَبَ الشیئَ: کو جدا جدا کرنا، کاٹنا ـــ اللحمَ فی البُرْمَۃ: گوشت کو ہانڈی میں جمع کرنا۔ ـ فلانٌ: دوڑنا۔ القِرْضِبُ: بھوسی جو چھلنی میں باقی رہ جائے اور اسے پھینک دیا جائے۔ القِرْضابُ و القُرْضُوبُ ج قَراضِبۃ: قاطع تلوار، چور۔

۵۔ قَرْضَبَ الرجلُ: خشک چیز کھانا ـــ اللحمَ: سارا گوشت کھا جانا کہا جاتا ہے: قَرْضَبَ الذئبُ الشاۃَ: بھیڑیا سالم بکری کھا گیا۔ القِراضِبُ ج قَراضِبُ: جو کچھ ملے اسے کھا جانے والا۔ القِرْضابُ و القُرْضُوبُ ج قَراضِبۃٌ: خشک چیز کو کھانے والا، فقیر۔

۶۔ قَرْضَمَ الشیئَ: کو کاٹنا، لے کر چل دینا کہا جاتا ہے ھو یُقَرْضِمُ کُلَّ شیئٍ: وہ ہر چیز کو لے کر چل دیتا ہے۔ رجلٌ قُراضِمٌ و قِرْضِمٌ: ہر چیز لے لینے والا۔

ن قرض حَسَن: واپسی کی شرط کے بغیر سود سے پاک قرض، قرض مالی: نظام زر سے متعلق قرض۔ اَسْھُم القرض: سرکاری تمسک (Bonds)۔ قَرِیض: شاعری، فن شاعر، شعرگوئی۔ قُراضۃ جمع قُراضات: ریزے، ٹکڑے، کاشیں، چھیچھڑے، تراشیں،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کترنیں، چھیلنیں، لکڑی کی پرتیں، ردی، برادہ۔ القَوَارِض: کترنے والے جانور۔ مُقْرِض جمع مقرضون: قرض دینے والا، قرض دہندہ، بیاجو، قرض خواہ اِنْقِرَاض بتدریج پوشیدگی، ناپیدگی۔ نیستی، نابودگی۔

قرط :ا۔ قَرَطَ ـُ قَرْطًا الکُرَّاثَ ونحوَهٗ: کو باریک باریک کاٹنا۔ عوام قرط کو لثغ یعنی ہکلا پن کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلان یقرط بالراء: یعنی وہ راپڑھتے وقت ہکلاتا ہے۔ قَرَّطَ الشیئ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ـ السراجَ: چراغ سے گل گرانا۔ ـــ علی الرجلِ کو تھوڑا تھوڑا دینا۔ ـــ علی الشیئ عند العامۃ: کو مکمل کاٹ دینا۔ القُرْطُ: آگ کا شعلہ۔ القِرْطُ (ن): گندنا کی ایک قسم۔ القِرَاطُ: چراغ، چراغ کا شعلہ۔ و القُرَاطَۃُ: بتی کا گل۔ والقِرَّاطُ: قیراط القِیْرَاطُ ج قَرَارِیْطُ: نصف دانق اور بقول بعض دینار کا ۲/۴ اور بقول بعض دینار کے دسویں حصہ کا آدھا بقول بعض کسی چیز کا چوبیسواں حصہ۔ ـ فی المساحۃ انگلی کی چوڑائی کے برابر (یونانیہ) وعند الیونان: دانہ خرنوب نصف دانق اور درہم ان کے ہاں بارہ دانوں کا ہوتا ہے۔ القَرَارِیْطُ: دانہ تمرھندی۔ (املی کا دانہ)

۲۔ قَرِطَ ـَ قَرَطًا التَیْسُ: کٹے ہوئے کانوں والا ہونا صفت اَقْرَطُ ـ قَرَّطَ الجاریۃ: لڑکی کو بالی پہنانا۔ ـــ الفرسَ: گھوڑے کو لگام لگانا۔ تَقَرَّطَتِ المرأۃ: عورت کا بالی پہننا۔ القُرْطُ ج اَقْرَاطٌ و قِرَاطٌ و قُرُوْطٌ و قِرَطَۃٌ: بالی، ایرنگ، ثریا (بناء برتشبیہ) تھن، ـ من الموز او البلح کیلے وغیرہ کی پھلیوں کا گچھا انگور کی طرح۔ القَرَطَۃُ و القِرَطَۃُ: مینڈھے کے کان کا کٹ کر لٹکتا ہوا حصہ۔

۳۔ قَرَّطَ الیہ رسولًا کو جلدی بھیجنا۔

۴۔ القُرْطُ (ن): ایک گھاس ہے جو اسپست کے مشابہ ہے۔ القَیْرُوْطِیُّ: ایک مرہم جو لیپ کی جاتی ہے (یونانیہ)۔

۵۔ قَرْطَبَ قَرْطَبَۃً ہٗ: کو گدی کے بل پچھاڑنا۔ تَقَرْطَبَ علی قفاہ: گدی کے بل گرنا۔

۶۔ قَرْطَبَ قَرْطَبَۃً الجزورَ: کی ہڈیوں کو کاٹنا۔ القُرَاطِبُ: بہت کاٹنے والا۔ القُرْطُبِی: تلوار۔

۷۔ قَرْطَبَ قَرْطَبَۃً الرجلُ: غضبناک ہونا، تیز دوڑنا بھاگنا۔

۸۔ قَرْطَسَ نشانہ لگانا۔ القِرْطَاسُ ج قَرَاطِیْسُ: نشانہ۔

۹۔ تَقَرْطَسَ الرجلُ ہلاک ہونا۔

۱۰۔ القِرْطَسُ والقَرْطَسُ والقِرْطَاسُ و القَرْطَاسُ و القُرْطَاسُ ج قَرَاطِیْسُ: کاغذ۔ القِرْطَاسُ ج قَرَاطِیْسُ: ایک قسم کی مصری چادر، کاغذ، تحریر جو کچھ بھی ہو، سفید دراز قامت لڑکی، جوان اونٹنی۔

۱۱۔ القِرْطِیْطُ و القِرْطِیْطَۃُ تھوڑی چیز۔

۱۲۔ القَرْطَفُ و القَرْطَفَۃُ مخملی چادر۔

۱۳۔ قَرْطَلَ ہٗ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا۔ القَرْطَلُ ج قَرَاطِلُ: ٹوکری، کنڈیا، عوام ہر ٹوکری کو قرطل کہتے ہیں۔ القَرْطَلَّۃُ: گدھے کا ایک جانب کا بوجھ۔ القِرْطَالَۃُ ج قِرْطَالٌ: پالان کے نیچے کا خوگر۔

۱۴۔ قَرْطَمَ قَرْطَمَۃً الشیئَ: کو کاٹنا ـــ الطائرَ: کے لئے قرطم کے دانے ڈالنا۔ القِرْطِمُ: اور اسے عُصْفُر بھی کہا جاتا ہے (ن) بنگترہ نما ایک پھل دار پودہ۔ القُرْطُمُ و القِرْطِمُ و القُرْطُمُّ: قرطم یا عصفر کا دانہ۔ القُرْطُمَانُ: ایک قسم کا غلہ جو ماش کے مشابہ ہوتا ہے۔ خِفَافٌ مُقَرْطَمَۃٌ: کناروں پر مضبوط سلے ہوئے چرمی موزے عوام انہیں اصابع مقرطمہ: (چھوٹی انگلیاں) کہتے ہیں۔

○ قِرطاس جمع قَرَاطِیس: کاغذ، کاغذ کا تختہ، تاؤ، کاغذی تھیلا، لفافہ۔ قَرْطَس کاغذ، کاغذ کا تختہ، تاؤ۔

○ قُرْطُبَۃ ہسپانیہ کے ایک شہر کا نام Cordova۔

○ قَرْطَجَنَّۃ و قرطاجنہ: قرطاجنہ، کارتھیج (شہر)۔

○ قِرْطِم و قُرْطُم: کسم، زعفران کاذب، عصفر۔ قُرْطُمان: جئی۔

قرظ :ا۔ قَرَظَ ـِ قَرْظًا القَرَظَ: درخت سلم (جو کیکر کی مانند ہوتا ہے) کے پتے چننا ـ الادیمَ: کو درخت سلم کے پتوں سے دباغت دینا۔ القَرَظ: واحد قَرَظَۃ: درخت سلم کے پتے جن کے ساتھ دباغت کی جاتی ہے۔ القَرَّاظُ درخت سلم کی پتیوں کو بیچنے والا۔

۲۔ قَرِظَ ـَ قَرَظًا ذلت کے بعد سردار ہونا۔

۳۔ قَرَّظَ تَقْرِیْظًا ہٗ: زندہ کی سچی یا جھوٹی مدح کرنا۔ تَقَارَظَ الرجلان ایک دوسرے کی مدح کرنا۔

○ قَرِیظ و تقریظ: کسی زندہ یا مرحوم شخص کے اوصاف اور خدمات کو سراہتے ہوئے اس کا تحریری یا تقریری تذکرہ، مدح، قصیدہ، مدح سرائی، کسی شخص یا شئے کی رسمی تعریف، مدحیہ عبارت۔

قرع: قَرَعَ ـَ قَرْعًا الباب: دروازہ کھٹکھٹانا اور اس سے مثل ہے مَنْ قَرَعَ بَابًا وَلَجَّ وَلَجَ: جو شخص دروازہ کھٹکھٹائے اور اصرار کرے وہ داخل ہوتا ہے ـ الرجلَ: کو مارنا کہا جاتا ہے۔ قَرَعَ رأسَہٗ بالعصا: اس نے اس کے سر پر لاٹھی ماری، اور کہا جاتا ہے قَرَعَ صفاتَہٗ: اس نے اس کی منقصت کی اور عیب بیان کیا اور کہا جاتا ہے قرع ساقہ للامر: وہ کام کے لئے فارغ ہوا۔ قَرَعَہٗ بالحق: کو مناسب طور پر پھینکنا۔ ـ ہٗ امرٌ: کو اچانک پیش آنا۔ ـــ سِنَّہٗ: ندامت سے دانت پیسنا۔ قَرِعَ ـ قَرَعًا و قَرْعًا ماءُ البئر: کنویں کے پانی کا ختم ہونا۔ قَرَّعَ فلانًا کو جھڑکی دینا۔ ـ القومَ کو رنجیدہ کرنا۔ قَارَعَ و تَقَارَعَ القومُ آپس میں قرعہ اندازی کرنا۔ ـــ القومُ بالرماح: آپس میں نیزہ بازی کرنا۔ اَقْرَعَتِ الحمیرُ گدھوں کا ایک دوسرے کو دولتی مارنا۔ ـ الغائصُ و المائحُ غوطہ خور کا زمین کی تہہ تک پہنچنا۔ اِسْتَقْرَعَ الحافرُ: کھر کا سخت ہونا۔ القَارِعَۃُ ج قَوَارِعُ: القارع کا مونث، قیامت، مصیبت، ہلاک کرنے والی مصیبت، کہا جاتا ہے۔ قَرَعَتْھُم قوارعُ الدھرِ: ان پر زمانہ کی سخت مصیبتیں آئیں، اور کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من قوارعِ فلان: ہم فلاں کی زبان کی تیزی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ قَارِعَۃُ الطریق: راستے کا اعلیٰ اور بڑا حصہ۔ القَرْعَۃُ قرع سے اسم مرہ۔ القَرَعَۃُ: ڈھال۔ القَرَّاعُ م قَرَّاعَۃُ: اسم مبالغہ، ڈھال، بہت سخت القَرُوْعُ: کم پانی والا کنواں۔ القَرِیْعُ ج قَرْعٰی: قرعہ اندازی کرنے والا۔ المِقْرَاعُ: پتھر توڑنے کی کدال الاَقْرَعُ مونث قَرْعَاءُ ج قُرْعٌ و قُرْعَانٌ: عمدہ لوہے کی تلوار، ترس اقرع: سخت ڈھال القَرْعَاءُ: مصیبت، راستہ کا اعلیٰ حصہ۔ المِقْرَعَۃُ ج مَقَارِعُ: کوڑا، ہر وہ چیز جس سے کھٹکھٹایا جائے۔

۲۔ قَرَعَ ـَ قَرْعًا الشیئَ کو پسند کرنا۔ اَقْرَعَ الرجلَ کو عمدہ مال دینا۔ اِقْتَرَعَ الشیئَ کو اختیار کرنا۔ القُرْعَۃُ: عمدہ مال۔ القَرِیْعُ ج قَرْعٰی جوان اونٹ، سردار، کہا جاتا ہے۔ فلان قریعُ دَھْرِہٖ فلاں انتخاب زمانہ ہے اور کہا جاتا ہے۔ ھو قریعُ الکتیبۃ: وہ فوج کا سردار و کمانڈر ہے۔ القَرِیْعَۃُ: عمدہ مال، گھر میں سب سے عمدہ جگہ۔ القِرِّیْعُ: سردار۔ المَقْرُوْعُ (مفع): سردار۔

۳۔ قَرَعَ ـَ قَرْعًا السھمُ الغایۃَ: تیر کا نشانہ پر لگنا۔ قَرَعَ ـُ قَرْعًا فلانًا: قرعہ میں غالب آنا۔ قُرِعَ علیہ: تیر اندازی میں مغلوب ہونا۔ قَرِعَ ـَ قَرْعًا و قَرَعًا الرجلُ: تیر اندازی میں مغلوب ہونا۔ قَارَعَ قِرَاعًا و مُقَارَعَۃً ہٗ: باہم قرعہ اندازی کرنا ـــ ہٗ فَقَرَعَہٗ: اس نے اس سے قرعہ اندازی کی اور غالب آیا۔ تَقَارَعَ القومُ قرعہ ڈالنا۔ اَقْرَعَ بین القوم: قرعہ ڈالنا۔ اِقْتَرَعَ القومُ علی کذا: پر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

قرعہ ڈالنا۔ القَرَعُ: مقابلہ میں سبقت۔ القُرْعَةُ: قرعہ اندازی، حصہ۔ اِلقاءُ القُرْعَةِ: قرعہ اندازی۔ القَرُوْعُ: بکری جس پر قرعہ اندازی کریں۔ القَرِيْعُ ج قَرْعٰی: قرعہ اندازی میں غالب، قرعہ اندازی میں مغلوب۔ القِرِّيْعُ: اسم مبالغہ۔

۴۔ قَرِعَ َ قَرَعًا و قَرْعًا المكانُ: خالی ہونا۔ قَرَعًا الرجُلُ: گنجا ہونا۔ قَرَّعَ الفصيلَ: اونٹ کے بچے کی پھنسی کا علاج کرنا۔ الشعرَ: بال کاٹنا۔ تَقَرَّعَ الجلدُ: گنجے پن کی وجہ سے کھال کا چھل جانا۔ اِسْتَقْرَعَت الكرش: اوجھ کا سخت ہونا۔ القَرَعُ: (طب) گنجا پن سفید پھنسی جو اونٹ کے بچوں کو ہوتی ہے۔ اونٹوں سے خالی ان کی خوابگاہ، وہ جگہیں جن میں صرف گھاس ہو اور دوسری نباتات نہ ہو، کھجلی۔ القَرْعَۃُ عند العامہ کھوپڑی، کاسہ سر عوام کہتے ہیں حرج فلانٌ بالقَرْعہ فلاں شخص ننگے سر نکلا القَرَعَةُ: سر میں گنج کی جگہ، اونٹوں سے خالی ان کی خوابگاہ۔ اَرْضٌ قَرِعَةٌ: بنجر زمین۔ فَصِيْلٌ قَرِيْعٌ: پھنسی والا اونٹ کا بچہ۔ الاَقْرَعُ مونث قَرْعَاءُ ج قُرْعٌ و قُرْعَانٌ: بیماری سے ہونے والا گنجا — من الحيّات: زہریلا سانپ کہ جس کی زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال گر گئے ہوں۔ — من الغنم: بغیر سینگوں والی بکری (عامیہ) جَبَلٌ اَقْرَعُ: بغیر نباتات کے پہاڑ۔ عُوْدٌ اَقْرَعُ: چھال اتری ہوئی لکڑی۔ قِدْحٌ اَقْرَعُ: کنکری سے مانجھا ہوا تیر کہ جس میں نقوش وغیرہ ظاہر ہو جائیں۔ القَرْعَاءُ الاَقْرَعُ کی مونث: گھر کا صحن اَرْضٌ قَرْعَاءُ: چری ہوئی زمین۔ القُرَيْعَاءُ: زمین جس کے کناروں پر پیداوار ہو اور درمیان سے خالی ہو۔

۵۔ قَرِعَ — َ قَرَعًا و قَرْعًا الرجُلُ: مشورہ قبول کرنا۔ اَقْرَعَ الشيئَ: کی طاقت رکھنا — الی الحق: کی طرف لوٹنا۔ القَرِعُ: مشورہ قبول کرنے والا۔

۶۔ اَقْرَعَ: مشورہ قبول نہ کرنا، باز رہنا — فلانًا: کو روکنا۔ — عنہ: سے رکنا۔ الدابَّةَ بلجامها: جانور کو لگام سے کھینچ کر روکنا۔ تَقَرَّعَ: الٹنا پلٹنا کہا جاتا ہے۔ بِتُّ اَتَقَرَّعُ: میں بے چین رہا نیند نہیں آئی۔ اِنْقَرَعَ: الٹنا پلٹنا۔ — عن الامر: سے رکنا۔ — عن الحق: سے باز رہنا۔ القَرِعُ: نہ سونے والا۔ المُقْرَعُ من الخيل: وہ گھوڑا جس کو لگام کھینچ کر روکا جائے اور وہ اپنے سر کو بلند کرے۔

۷۔ اَقْرَعَ الشرُّ: ہمیشہ رہنا۔ نعلَهُ: جوتے میں موٹا پیوند لگانا۔ دارَهُ آجرًا: گھر میں اینٹوں کا فرش لگانا۔

۸۔ اَقْرَعَ المُسافِرُ: منزل سے قریب ہونا۔

۹۔ اِقْتَرَعَ النارَ: آگ روشن کرنا۔

۱۰۔ القَرْعُ واحد قَرْعَةٌ: کدو۔ الکبیر (ن): کدو کی نسل کی بیضوی شکل کی سبزی۔ ظِفْرٌ قَرِعٌ: تباہ شدہ ناخن۔ القُرْعَةُ: توشہ دان۔ القَرَعَةُ: چھلی ہوئی تلی کا توشہ دان۔ المِقْرَعُ: گھی یا کھجور رکھنے کا برتن۔

۱۱۔ القَرْعَوْنُ: بادام چھلکا سمیت (عامیہ سریانیہ)

۱۲۔ القَرْعُوْمَةُ: ٹوٹا ہوا مٹی کا برتن (عامیہ)

قرغ: القَرَاغُوْلُ: راستہ کا محافظ یہ تاتاری لفظ ہے اور اس کے لئے عربی لفظ خفیر ہے عوام الناس اسے کرکون کہتے ہیں۔

ⓒ قَرَعَ الجرسَ: گھنٹی بجانا۔ سَمْعَهُ: کے کان تک پہنچنا۔ — سنَّهُ: دانت پیسنا۔ — سِنَّ النَدَم ل علی: پر پچھتانا، ہاتھ ملنا۔ قرعه ضميرُهُ: اس کے ضمیر نے اسے سخت کوفت پہنچائی، یا سخت ضرب لگائی۔ اس نے سخت پشیمانی محسوس کی۔ الکاس ل: کسی کا جام صحت نوش کرنا۔ قَرْع واحد قرعة: تونبا، تونبی، پیٹھا، کدو، گھیا، لوکی۔ قرع ضروف: لوکی، کدو یا تونبے کی مختلف اقسام میں سے کوئی ایک خصوصا بوتل تونبا، جنگلی تونبا۔ قرع كُوسى: زوچینی، گرمیوں کے موسم کا بیلن کی شکل کا کدو جس کا پوست گہرا سبز اور لطیف ہوتا ہے۔ قَرْعى: تونبے، تونبی، پیٹھا، کدو، گھیا، لوکی کا یا ان سے متعلق، خیاری قسم کے پودوں سے تعلق رکھنے والا جیسے کدو، پھوٹ، کھیرا، خربوزہ، خربوز اور اندرائن وغیرہ کے پودے۔ قُرْعَة جمع قُرَع: قرعہ (اندازی) مخفی رائے دہی، بیلٹ، قرعہ اندازی کرنا (فوج میں) جبری بھرتی، قرعہ اندازی سے بھرتی، دکھائے بغیر ووٹ دینا۔ قرعة عسكرية: فوجی بھرتی۔ انفار القرعة: خاص دستہ کے رنگروٹ (نئے رکن) قُراع و مرضُ القُراع: جلد کی بیماری، درد۔ قَرِيع: نہایت عمدہ، بہت خوشنما، چیدہ، منتخب، قريع الدهر: اپنے زمانہ کا سب سے بڑا ہیرو۔ اَقْرَع: گنجا، خالی، ننگا، خارشتی، پپڑی دار، اِقْتِراع جمع اقتراعات: دکھائے بغیر ووٹ دینا، بھرتی، لازمی فوجی خدمت کے لئے لوگوں کا انتخاب، ووٹ، انتخاب قارعة الطريق: سڑک کا درمیان، سڑک کا گولا، سڑک، شاہراہ۔ علی قارعة الطريق: کھلی سڑک پر

قرف: ۱۔ قَرَفَ — ِ قَرْفًا الشيئَ: کو چھیلنا۔ و قَرَّفَ القرحةَ: زخم کو چھیلنا۔ تَقَرَّفَ الجرحُ: زخم کا چھل جانا۔ القَرْفُ (مص) ج قِرَافٌ و قُرُوْفٌ: ایک قسم کا [illegible] دیتے ہیں۔ گہرا سرخ رنگ۔ القِرْفُ ج قُرُوْفٌ واحد قِرْفَةٌ: درخت کی چھال، ہر چھال کو قرف کہتے ہیں اس سے ہے قِرْفُ الرُّمَّانِ: روٹی کا چھاکا جو تنور میں رہ جائے، زمین سے اکھڑی ہوئی چیز، ناک پر خشک رینٹ۔ القَرِفُ: گہرا سرخ گویا وہ انار کا چھلکا ہے کہا جاتا ہے: اراك احمر قَرِفًا: میں تم کو بہت سرخ دیکھ رہا ہوں۔ القِرْفَةُ: چھال، انار کا چھلکا۔ (ن): دار چینی کی ایک قسم جس کو تج کہتے ہیں۔ اس پودا کا اصل گہوارہ جزیرہ سیلوں ہے اس کے پتے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں عموماً گرم ممالک میں ہوتا ہے اس کی شاخوں کے چھلکوں سے تیز ذائقہ گرم مصالحہ بنایا جاتا ہے۔ القَرْفِيُّ والمُقْرِفُ: وہ شخص جس کے رنگ میں سرخی جھلکتی ہو۔ القُرَافَةُ: درخت کی چھال۔ القَرُوْفُ ج قُرُفٌ و قُرُفٌ: توشہ دان۔ الاَقْرَفُ: بہت سرخی والا۔ المَقْرِفُ: وہ جگہ جہاں سے چھال اتار دی گئی ہو۔

۲۔ قَرَفَ ِ قَرْفًا علی القوم: سے بغاوت کرنا، جھوٹ بولنا۔ — الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ القَرُوْفُ ج قُرُفٌ و قُرُفٌ: بہت ظلم کرنے والا، بڑا بے انصاف۔ سخت باغی۔

۳۔ قَرَفَ ِ قَرْفًا الرجُلُ: جھوٹ سچ ملانا۔ — الشیئَ: کو ملانا۔ فلانًا بكذا: پر کا عیب لگانا، پر کی تہمت رکھنا۔ قَرِفَ — َ قَرَفًا فلانٌ المرضَ: مرض کے قریب ہونا۔ قَارَفَ مُقَارَفَةً و قِرافًا هُ: کے قریب ہونا۔ — الذَنْبَ: گناہ میں ملوث ہونا۔ قَرَّفَ فلانًا بكذا: پر کا عیب لگانا، پر کی تہمت رکھنا۔ اَقْرَفَ هُ: کو برائی سے یاد کرنا۔ — لَهُ: کے قریب ہونا سے اختلاط کرنا۔ — به: کو تہمت لگوانا۔ — الجَرِبُ الصحاحَ: کو بیماری کا چھوت لگنا۔ اِقْتَرَفَ الذَنْبَ: گناہ کر لینا، گناہ کرنا کہا جاتا ہے قَرَفْتُهُ بالامرِ فَاقْتَرَفَ بِهِ: میں نے اسے عیب لگایا اور اسے عیب لگ گیا۔ القَرَفُ: میل جول، مرض کا دوبارہ ہونا، بیماری کی چھوت، تہمت۔ القِرْفَةُ: تہمت، جس کے اوپر تم تہمت لگاؤ، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ قِرْفَتي: فلاں وہ شخص ہے جس پر میں نے تہمت لگائی اور کہا جاتا ہے بنو فلان قِرفتي: بنو فلاں وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میرا گمان ہے کہ میرا مطلوب ان کے پاس ہے۔ المِقْرَافُ: بہت گناہوں کا ارتکاب کرنے والا۔

۴۔ قَرَفَ — ِ قَرْفًا لعياله: اپنے عیال کے لئے کمائی کرنا۔ اِقْتَرَفَ: کمائی کرنا۔ — المالَ: کو جمع کرنا۔ القِرْفَةُ: کمائی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۵۔ قَرِفَ ۔قَرَفًا منه: سے گریز کرنا،نفرت کرنا(عامیہ)۔ القَرَفُ: کسی گندے کام یا گندی چیز سے نفرت اور پرہیز کرنا(عامیہ)۔ المُقرِفُ: خسیس،حقیر، ـــــ وجهٌ مُقرِفٌ: بدصورت چہرہ۔

۶۔ القِرفُ والقَرَفُ والقَرِفُ: اچھی صفات والا، کہا جاتا ہے هو قِرفٌ او قَرَفٌ او قَرِفٌ بكذا: یعنی وہ اس کے لائق ہے۔ رجلٌ مُقرُوفٌ: پتلی کمر والا مرد۔

۷۔ قَرفَصَ قَرفَصَةً ہ: کے پاؤں کے نیچے دونوں ہاتھ اکٹھے کرکے باندھنا۔ ـتِ العجوزُ: بڑھیا کا کپڑوں میں لپٹنا۔ القَرفَصی مثلثة القاف والفاء والقَرفُصاءُ والقُرفُصاءُ: اکڑوں بیٹھنا اور ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھنا یا گھٹنوں کے بل بیٹھنا اور پیٹ کورانوں کیساتھ لگالینا کہا جاتا ہے قعد القرفصی او القرفصاء: وہ اکڑوں بیٹھا۔ القُرَافِصُ: بہت مضبوط۔ القَرَافِصَةُ: ڈاکو(جمع)۔

۸۔ قَرفَطَ الرجُلُ: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔ اِقرَنفَطَ: سمٹنا، اکٹھا ہونا۔

۹۔ المُقَرفَلُ من الاطعمة: لونگ سے خوشبودار کیا ہوا کھانا۔

قرق: ۱۔ قَرَقَ ـُ قَرقًا بفلان: کو دھوکا دینا۔

۲۔ قَرَقَ ـــُ قَرقًا ت الدجاجةُ: کڑکڑانا اور انڈے یا بچوں کا پروں کے نیچے کرنا۔ القُرقُ عندالعامة: خصیہ کا سوجن، بیان کرنے والے کی آواز کی نقل (عامیہ)۔ القِرقَةُ: انڈوں پر بیٹھنے والی مرغی یہ قرقت الدجاجة سے ماخوذ ہے یعنی وہ کڑکڑ کرتی ہے(عامیہ) المَقرُوقُ: قرق کی وجہ سے تکلیف زدہ (عامیہ)

۳۔ قَرِقَ ـَـ قَرَقًا: (ہموار جگہ میں چلنا)۔ القِرقُ والقَرَقُ والقَرِقُ: ہموار جگہ۔

۴۔ القِرقُ ج اَقرَاقٌ: بری جڑ، عادت، حقیر لوگ، جماعت کہا جاتا ہے جاء قرق من الناس: لوگوں کی ایک جماعت آئی ہے۔

۵۔ القُرقُبُ (ح) مخروطی چونچ والا چھوٹا سا پرندہ۔

۶۔ قَرقَدَ الخبزُ و نحوهُ: خشک ہونا (عامیہ سریانیہ)

۷۔ القَرقَذَانُ والقَرقَذُونَ (ح): سنجاب۔

۸۔ قَرقَرَ قَرقَرَةً البعيرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔ ـــ ت الحمامةُ او الدجاجةُ: کبوتروں کا غرغوں کرنا، مرغی کا کڑکڑانا ـــ البطنُ: پیٹ کا گڑگڑانا۔ ـــ الرجُلُ في ضحكه: بہت زور سے ٹھٹھا مارنا۔ ـــ الشرابُ في حلقه: پانی وغیرہ کا حلق میں آواز کرنا۔ القَرقَرَةُ (مص) ج قَرَاقِرُ: کبوتر کی آواز، بہت زور کی ہنسی۔ القَرقَارُ: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔ القُرَاقِرُ و القُرَاقِرِيُّ: اچھی آواز سے حدی پڑھنے والا۔ القُرَاقِرَةُ: بہت بک بک کرنے والی عورت۔ و القُرقَارَةُ: اونٹ کا جھاگ جو مستی کیوقت نکلتا ہے۔

۹۔ القَرقَرُ ج قَرَاقِرُ: پست نرم زمین۔ القَرقَرَةُ ج قَرَاقِرُ: چہرہ کی کھال یا اس کے ظاہری محاسن، نرم پست زمین۔ القَرقَارَةُ: لمبی گردن کا شیشے کا کپ۔ القُرقُورُ ج قَرَارِيرُ: لمبی کشتی۔ القَرقُورُ عندالعامة (ح): چھوٹا سا چوزہ (سریانیہ)۔

۱۰۔ قَرقَسَ الكلبَ وبه: کتے کو قرقوس کہہ کر پکارنا۔ القِرقِسُ (ح): کھٹمل جیسا کیڑا القَرقُوسُ: سخت میدان۔

۱۱۔ قَرقَشَ الشيئَ الصلبَ كالقضامي ونحوه: سخت چیز کھانا (عامیہ سریانیہ) القَرَاقِيشُ: چینی یا شہد ملا کر تیل میں پکائی ہوئی میدے کی چپاتیاں جو ٹھنڈی ہو کر خستہ ہو جاتی ہیں۔ (عامیہ)۔ مغز وغیرہ بھر کر گھی میں تلی ہوئی میدے کی پوڑیاں (عامیہ) نرم مرمری ہڈیاں (عامیہ)۔

۱۲۔ قَرقَصَ بالجرو: کتے کے پلے کو بلانا۔ القُرقُوصُ ج قَرَاقِيصُ: کتے کا پلا۔

۱۳۔ قَرقَعَ قَرقَعَةً: ٹھک ٹھک کرنا (عامیہ)۔

۱۴۔ قَرقَافَ قَرقَفَةً من البرد: کپکپی زدہ ہونا۔ قَرقَفَهُ البردُ: پر سردی کا کپکپی ڈالنا۔ ـــ الرجلُ في الضحك والحمام في الهدير: آدمی کا ہنسنے میں اور کبوتر کا غرغوں کرنے میں زیادتی کرنا۔ یعنی بہت ہنسنا یا غرغوں کرنا القَرقَفُ: شراب، ٹھنڈا پانی۔ و القُرقُفُ (ح): مخروطی چونچ والا چھوٹا سا پرندہ جسے قُرقُب بھی کہا جاتا ہے۔ دِيكٌ قُرَاقِفٌ: بلند آواز مرغ۔ القَرقُوفُ: درہم، شراب۔

۱۵۔ القَرقَلُ والقَرقَلُّ ج قَرَاقِلُ: بے آستین کا کرتا۔

۱۶۔ قَرقَمَ الصبيَّ: بچے کو بری خوراک دینا۔ المُقَرقَمُ: وہ جو جوان نہ ہو اور قوت نہ پکڑ سکے۔

قرل: قِرِلىٌّ: (ح) ایک چوکنا آبی پرندہ جو مچھلیوں کو اپنی خوراک بناتا ہے۔

○ قَرَفَ ـِـ قَرفًا ہ: کو چھیلنا، کی چھال اتارنا، کوتراشنا۔ قَرِفَ ـَ قَرَفًا ہ: سے سخت نفرت کرنا، کراہت محسوس کرنا، سے جی متلانا۔ قَرَّفَ ہ: کو چھیلنا، کی چھال اتارنا، کوتراشنا، ـــ: قابل نفرت ہونا، کراہت جگانا۔ قارَفَ ہ: (گناہ) میں پھنسنا، راغب ہونا، (خواہش) کے آگے جھک جانا۔ اِقتَرَفَ ہ: (جرم کا) ارتکاب کرنا، کا مرتکب ہونا، کو کرنا۔ قَرَف: نفرت، تنفر، کراہت، سخت نفرت۔ قِرفَة جمع قِرَف: چھلکا، چھال، کھال، چمڑی، جلد، پپڑی، پرت، کھرنڈ، جلد کی بھوسی، سر کی خشکی، بفا، میل کی تہہ، دارچینی۔ قَرَافَة: قبرستان، گورستان، شہر خموشاں، قاہرہ کے قریب مقطم کی پہاڑیوں کے نیچے واقع قبرستان۔ قریفة: بدمذاق، بد مزاج۔ قَرفان: نفرت پیدا کردہ، جی متلایا ہوا، بیمار اور تھکا ہوا۔ اقتراف: (جرم) کا ارتکاب۔ مُقرِفٌ: قے آور، قابل نفرت، نفرت، انگیز، کریہ، گھناؤنا، مُقتَرِف: (جرم کا) مرتکب۔

○ قَرفَصَ: زمین پر، رانیں پیٹ کے ساتھ لگا کر اور بازو کی ٹانگوں سے لپیٹ کر بیٹھنا، قرفصاء: اس طرح بیٹھنا، اس طرح بیٹھنے کی وضع۔ جلَسَ (قعَدَ) القرفصاء: ایڑیوں کے بل بیٹھنا۔ قَرفال (واحد قرفالة) باقلا، موٹھ، ونچ Vetch قَرقَذان: گلہری۔

○ قرقر قَرقَرَةً: لڑھکنا، (پیٹ کا) گڑگڑانا، (اونٹ کا) بلبلانا، (کبوتر کا) کوکنا، (بلی کا) خرخر کرنا۔ قَرقُوش جمع قراقيش: کرکری ہڈی، مرمری ہڈی، چپٹی ہڈی۔ قَرقُوشَة جمع قَرَاقِيش: ایک قسم کا خستہ بسکٹ۔ مُقَرقَش: خستہ، بھر بھرا۔ خستہ کیا ہوا، بھر بھرا کیا ہوا قَرقَضَ ہ: کو کاٹنا، کترنا۔ قَرقَضَ على اسنانِه: دانت پیسنا۔

قرم: ۱۔ قَرَمَ ـِـ قَرمًا و قُرُومًا و مَقرَمًا و قَرَمَانًا الصبيُّ والبَهمُ: تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرنا۔ قَرَمَ ـُ قَرمًا الطعامَ: کھانا کھانا۔ الرجُلَ: کو گالی دینا عوام کہتے ہیں۔ قرم القضيبَ و نحوهَ: اس نے کٹی ہوئی شاخ کا سرقلم کردیا۔ قَرَّمَهُ: کو کھانا سکھانا۔ تَقَرَّمَ الصبيُّ والبهمُ: تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرنا۔ القَرمُ (مص) ج قُرُومٌ: اونٹ کی ناک پر داغ، جوئے کے تیر کی علامت۔ القَرمَةُ: اونٹ کی ناک کی کٹی ہوئی کھال۔ القُرمَةُ: اونٹ کی ناک کی کٹی ہوئی کھال ـــ و القِرَامُ: اونٹ کے ناک کاٹنے کی جگہ۔ قُرمَةُ الشجرة و قِرمِيَّتُهَا عند العامه: کٹے ہوئے تنے کا نچلا باقی ماندہ حصہ، ٹھنٹھ۔ القُرَامَةُ: اونٹ کی ناک کی کٹی ہوئی کھال، اونٹ کی ناک سے کٹا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا۔ اونٹ کا سینہ۔ عیب۔ الاقرَمُ مونث قَرمَاءُ ج قُرمٌ: داغ لگا ہوا اونٹ،

۲۔ قَرَمَ ـُ قَرمًا الشيئَ: کو چھیلنا۔ القُرَامَةُ: روٹی کا وہ حصہ جو تنور میں لگا ہوا رہ جائے۔

۳۔ قَرَمَ ـُ قَرمًا الرجُلَ: کو قید کرنا۔

۴۔ قَرِمَ ـَ قَرَمًا الى اللحم: گوشت کا بہت خواہشمند

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہونا، کہا جاتا ہے قَرِمْتُ الی لقائہ: میں اس کی ملاقات کا شائق ہوا۔

۵۔ قَرَّمَ و اَقْرَمَ الفحلَ: سانڈ کو جفتی کے لئے کام اور سواری سے فارغ رکھنا۔ اِسْتَقْرَمَ البَکْرُ قبلَ اوانہ: وقت سے پہلے سانڈ بنا۔ القَرْمُ ج قُرُوْمٌ: سانڈ جسے سواری اور کام سے فارغ رکھا جائے، سردار، عظیم، بڑا۔ الاَقْرَمُ مونث قَرْمَاءُ ج قُرْمٌ من الجمال: اونٹ جو باندھا نہ جائے۔

۶۔ القِرَامُ: سرخ پردہ یا باریک کپڑا۔ القُرْمُ (ن): ایک پودا جو سفیدی اور موٹائی میں چنار کے درخت کی مانند ہوتا ہے۔

۷۔ قَرْمَدَ قَرْمَدَۃً الکتابَ: کو باریک لکھنا، قریب قریب لکھنا۔ فی المشی: قریب قریب قدم رکھنا۔

۸۔ قَرْمَدَ قَرْمَدَۃً الشیئَ: پر قرمد کا طلاء کرنا۔ القَرْمَدُ: ہر وہ چیز جس کو زینت کے لئے کسی پر لگائیں جیسے زعفران اور گچ وغیرہ، پختہ ٹھیکری۔ اینٹ (یونانیہ)۔ القِرْمِیْدُ واحد مونث قِرْمِیْدَۃٌ: اینٹ، جس سے پلاسٹر کیا جائے جیسے گچ وغیرہ۔ (یونانیہ)۔

۹۔ القُرْمُوْدُ ج قَرَامِیْدُ (ح): پہاڑی بکرا (ح): پہاڑی بکری کا بچہ۔ القِرْمِیْدَۃُ: ج قَرَامِیْدُ (ح): پہاڑی بکری۔

۱۰۔ القِرْمِزُ: سرخ رنگ۔ عند الاساکفہ: وہ کھال جو سرخ رنگ سے رنگی ہوئی ہو، القِرْمِزِیُّ: سرخ رنگ کا، القِرْمِزِیَّۃُ (ح): ایک سرخ رنگ کا پتنگا، یہ عام شاہ بلوط کے درخت پر رہتا ہے جسے قدیم زمانے میں کپڑا رنگنے میں استعمال کرتے تھے۔

۱۱۔ قَرْمَشَ ہٗ: کو بگاڑنا۔ ـــ الشیئَ: کو جمع کرنا عام لوگ لفظ قرمش کو چنے وغیرہ کھانے کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ القَرْمَشُ و القُرْمُشُ و القِرْمِیْشُ من الناس: طرح طرح کے لوگ۔

۱۲۔ قَرْمَصَ و تَقَرْمَصَ: سردی زدہ آدمی کا گرمی حاصل کرنے کے لئے گڑھے میں داخل ہونا۔ القَرَامِیْصُ: گرمی حاصل کرنے کے لئے گڑھے بنانا۔ القِرْمَاصُ ج قَرَامِیْصُ: تنگ منہ کا گڑھا جو اندر سے چوڑا ہو جس میں سردی زدہ گرمی حاصل کرتا ہے، بوبھل میں روٹی پکانے کی جگہ، کبوتر کا گھونسلہ۔ القُرْمُوْصُ ج قَرَامِیْصُ: شکاری کا گڑھا، زمین میں پرندہ کا گھونسلہ۔

۱۳۔ قَرْمَطَ قَرْمَطَۃً الکتابَ: باریک اور قریب قریب لکھنا۔ فی خطوہ قریب قریب قدم رکھ کر چلنا۔ عند العامۃ: ایک دوسرے کے قریب کرنا اور تنگ کرنا۔ القَرْمَطَۃُ عند العامۃ: ایک دوسرے کی نزدیکی۔ تنگی۔ القُرْمُوْطُ ج قَرَامِیْطُ (ح): مچھلی کی ایک قسم، کبریلا کی گولی۔ القَرَامِطَۃُ واحد قَرْمَطِیٌّ: شیعوں کا ایک غالی فرقہ۔

۱۴۔ قَرْمَلَ ہٗ: کو پچھاڑنا۔ القَرْمَلُ واحد قَرْمَلَۃٌ (ن): بغیر کانٹوں کے ایک کمزور درخت۔ القِرْمِلُ ج قَرَامِلُ: دو کوہانوں والا اونٹ۔ القَرَامِلُ و القَرَامِیْلُ من الشعر والصوف: بالوں یا اون کا بنا ہوا عورت کا موباف

۱۵ قَرِمَ ـ قَرَمًا ہ: کاٹنا، کترنا، قَرَمٌ جمع قُرُوم: اسپ نر، سانڈ گھوڑا، مالک، مِقْرَمٌ جمع مَقَارِم: چادر، پلنگ پوش۔ قُرْمَۃٌ جمع قُرَم: درخت کا ٹھنٹھ، گیلی، لکڑی کا بڑا ٹکڑا۔

۱۶ قَرْمَدَ ہ: پلستر کرنا، ٹائلیں لگانا، قَرْمَد: پلاسٹر، پلاسٹر آف پیرس۔ قِرْمِیْد: (واحد قِرْمِیْدَۃ) جمع قَرَامِیْد: (پکی) اینٹ، چھت کی ٹائل، پلاسٹر آف پیرس۔ الحُمَّی القِرْمِزِیَّۃ: ایک متعدی مرض جس سے جلد پر قرمزی رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔

۱۷ قَرْمَشَ ہ کوئی خشک چیز کھانا، چرمر کرنا۔ کترنا مُقَرْمَش: خشک، خستہ، بھربھرا، کرارا۔

قرن ۱۔ قَرَنَ ـــ قَرْنًا الشیئَ بالشیئِ: کو سے باندھنا ملانا۔ ـــ الثورَیْنِ: دو بیلوں کو ایک جوئے میں باندھنا۔ البعیرین: دو اونٹوں کو ایک رسی میں باندھنا۔ قَرَنَ ـُ قِرَانًا الفرسُ: دوڑنے میں پچھلی ٹانگوں کا اگلی ٹانگوں کی جگہ میں پڑنا۔ بین الشیئِ والشیئِ: کو جمع کرنا۔ قَرِنَ ـَ قَرَنًا: ملی ہوئی بھوؤں والا ہونا صفت: اَقْرَنُ۔ قَرَّنَ ہٗ: کو جمع کرنا باندھنا کہا جاتا ہے۔ قُرِّنَتِ الاُسَارٰی فی الحِبَالِ: قیدی رسیوں میں باندھے گئے۔ قَارَنَ قِرَانًا و مُقَارَنَۃً ہٗ: کا ساتھی ہونا، سے ملنا۔ اَقْرَنَ بین الامرین: کو جمع کرنا۔ (قَرَنَ افصح ہے) ـــ الرجلُ: دو تیر چلانا، دو قیدیوں کو ایک رسی میں لانا۔ ـ ہٗ: کا ہمسر ہونا، کو ایک رسی میں بندھے ہوئے دو اونٹ دینا۔ ـــ للامر: پر توانا ہونا۔ کی طاقت رکھنا ـــ علی غریمہ: قرضدار پر تنگی کرنا۔ تَقَارَنَ الرجلان: ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔ اِقْتَرَنَ الشیئُ بغیرہ: سے متصل ہونا ملنا۔ اِسْتَقْرَنَ لفلان: کا ہمسر ہونا۔ ـ الرجلُ للامر: پر توانا ہونا۔ القَرَنُ ج قُرُوْنٌ و قِرَانٌ: درخت کی چھال سے بٹی ہوئی رسی، بال یا اون کا ایک گچھا، عورت کے گیسو۔ ـ ج قُرُوْنٌ: ایک زمانہ کے لوگ، سو سال (کہا جاتا ہے۔ ھو علی قرنی: وہ میری عمر کا ہے)، ایک گروہ کے بعد ایک گروہ، زمانہ کا ایک وقفہ قَرْنُ الشیطانِ و قرناہ: شیطان کی رائے اور تسلط کے پابند۔ ذو القرنین: بادشاہ اسکندر مکدونی کا لقب، کیونکہ وہ مشرق و مغرب کے کناروں تک پہنچا منذر بن ماء السماء کا لقب جس کے سر کے دونوں طرف لٹیں تھیں۔ القِرْنُ ج اَقْرَانٌ: کفو۔ ھمسر، مقابل، شجاعت یا علم میں نظیر۔ القَرَنُ (مص) ج اَقْرَانٌ: دوسرے سے ملا ہوا، رسی جس میں دو اونٹ بندھے ہوئے ہوں۔ القِرَانُ ج قُرُنٌ: قیدی کے باندھنے کی رسی۔ ہل کے بیلوں کی گردن میں باندھنے کی چھال کی رسی، رسی جس کو باندھ کر اونٹ کو کھینچیں۔ القَرَانِیُّ: نزدیک، تانت جو اونٹ کی کھال سے بٹی ہوئی ہو، کہا جاتا ہے جاء و اقرانی: وہ ملے ہوئے آئے۔ القَرُوْنُ: ایک مرتبہ میں دو دو لقمے کھانے والا۔ وہ جانور جس کی پچھلی ٹانگیں اگلی ٹانگوں کی جگہ میں دوڑنے میں پڑیں، وہ اونٹنی جس کے بیٹھنے میں دونوں گھٹنے مل جائیں۔ ـ و القَرُوْنَۃُ: نفس۔ القَرِیْنُ ج قُرَنَاءُ: دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا، ساتھی، مصاحب، شوہر، نفس۔ القَرِیْنَۃُ ج قَرَائِنُ: القرین کا مونث بیوی۔ ـــ عند النساء: چھپنے والی عورت جو کبھی ظاہر ہو، ان کا خیال ہے کہ ہر عورت کے لئے ایک قرینہ یعنی نوکرانی ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے شر دفع کرنے کے لئے تعویذ پہناتی ہیں جسے وہ ثوب القرینہ کہتی ہیں۔ قرینۃ الکلام: جو کلام کے مراد پر دلالت کرے۔ دُوْرٌ قرائنُ: آمنے سامنے کے مکانات۔ الاَقْرَنُ مونث قرناء: ملی ہوئی بھوؤں والا اِقْتِرَانُ او اجتماعُ القمر (او سیارۃ) بالشمس (فلک): آفتاب و ماہتاب کا ایک ساتھ ہونا جبکہ زمین ان کے درمیان نہ ہو۔ سورج کو اس وقت تک گرہن نہیں لگتا جب تک چاند سے نہ ملے۔ المُقْرَنُ: ہل کا جوا۔ المُقْرَنَّۃُ: چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو آس پاس ہوں۔

۲۔ قَرِنَ ـَ قَرَنًا ذو القرن: بڑے سینگ والا ہونا۔ اَقْرَنَ الرجلُ: سینگ والے مینڈھے کی قربانی دینا۔ ـــ ت الثُّرَیَّا: بلند ہونا۔ القَرْنُ ج قُرُوْنٌ: جانور کا سینگ۔ فی الانسان: انسان کے سر کا وہ حصہ جہاں پر جانور کے سینگ نکلتے ہیں۔ قرنُ الشمس: آفتاب کی پہلی شعاع۔ ـــ جمع قُرُوْنٌ و قِرَانٌ: پہاڑ کی چوٹی، چھوٹی پہاڑی، قلعہ۔ ـ من الجراد: ٹڈی کے سر کے دو بال۔ ـ من القوم: سردار۔ ـ من السیف: تلوار کی دھار۔ ـــ قَرْنُ الغزال (ن): ایک دانے دار پودا جس کے دانے کھائے جاتے ہیں۔ وحید القرن (ح): گینڈا۔ القَرْنُ ج قِرَانٌ: تلوار، تیر۔ ـــ ج

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اَقْرَانٌ: تَرکش ـ القُرْنَةُ ج قُرَنٌ: ہر چیز کا اٹھا ہوا کنارا، تلوار یا نیزہ کی دھار ـ من البیت ونحوہ: کنارا (عامیہ) ـــ رجل قارن: تیر و تلوار سے مسلح ـ الاَقْرَنُ مونث قَرْنَاءُ: دو سینگوں والا ـ حیۃ قَرْنَاءُ: سانپ جس کے سر پر گوشت کے دو ٹکڑے ابھرے ہوئے ہوں ـ القَرَنْنَاءُ (ن): لوبیا ـ القَرنِیَّاتُ او القَطَانِیَّاتُ (ن): نباتاتی جنس جس کا دانہ دو ٹکڑوں والا ہوتا ہے اور کئی نباتات پر مشتمل جو زیادہ تر انسانی غذاء جانور کے چارہ کے طور پر یا پھر صنعت میں مستعمل ہیں جیسے لوبیا، چنا، مسور، نیل وغیرہ ـ المُقَرَّنُ: جس کیلئے سینگ کے مشابہ بنایا جائے، چار کونوں والا، بلند کنارے والا ـ المُقَرَّنَةُ: مُقَرَّن کا مونث ـ

۳ ـ اَقْرَنَ عنہ: سے عاجز ہونا ـ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا ـ

۴ ـ اَقْرَنَ الدم فی العرق: خون کا رگ میں زیادہ ہونا اور جوش مارنا ـ الدُمَّلُ: پھوڑے کا پکنا اور پھوٹنے کے قریب ہونا ـــ ت افاطیرُ وجہِ الغلام: لڑکے کے چہرے پر پھنسیاں نکلنا ـ اِسْتَقْرَنَ ـ الدمُ فی العرق: خون کا رگ میں زیادہ ہونا ـــ الدُمَّلُ: پھوڑے کا پھٹنے کے قریب ہونا ـ

۵ ـ اَقْرَنَ الرجُلُ: ہر رات میں ایک سلائی سرمہ لگانا ـ القَرِیْنُ العینِ: سرگین آنکھ والا

۶ ـ اَقْرَنَ ت السماءُ: لگاتار برسنا ـ القَرْنُ من المطر ج قُرُون: بارش کا جھلا ـ

۷ ـ قَارُوْنٌ: موسیٰ علیہا السلام کے دور کا مالدار ترین آدمی ـ اس کا نام کریزوس تھا اور وہ لیدیا کا آخری بادشاہ تھا ـ عربوں کی مثل ہے: اغنی من قارون: قارون سے بھی زیادہ مالدار القَرَّانُ: شیشی ـ

۸ ـ قَرْنَبَ اُذُنَیْہِ: کانوں کو اٹھانا (عامیہ) القَرَنْبَی (ح): لمبی ٹانگوں والا ایک کیڑا جو گبریلا کے مشابہ ہوتا ہے اور مثل ہے ـ القرنبی فی عین امھا حسنۃ: قرنبی اپنی ماں کی نگاہ میں اچھا معلوم ہوتا ہے ـ

۹ ـ قَرْنَسَ البازی: باز کی آنکھوں کو سینا ـــ الدیكُ: مرغ کا لڑائی سے بھاگ جانا ـ قُرْنِسَ البازی: بمعنی قَرْنَسَ: القُرْنَاسُ والقِرْنَاسُ: پہاڑ کا آگے کو نکلا ہوا حصہ، چھجے کا تکلا ـ سقف مُقَرْنَسٌ: سیڑھی کی طرز پر بنی ہوئی چھت ـ

۱۰ ـ القَرَنْفَلُ والقَرَنْفُوْلُ واحد قَرَنْفُلۃ وقَرَنْفُوْلَۃٌ (ن): لونگ ـ ایک پودا جو تزئین و آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے اس کے خوشبودار پھولوں کا رنگ سفید اور ارغوانی ہوتا ہے ـ جن سے خوبصورت گلدستے بنائے جاتے ہیں ـ یورپ، شمالی افریقہ اور ایشیا میں اس کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں عوام اسے کبش القرنفل کہتے ہیں (یونانیہ) المُقَرْفَلُ من الاطعمۃ: لونگ سے خوشبودار کیا ہوا کھانا ـ

۱۱ ـ القَرَانِیَا (ن): ایک پودا جس کا اصلی گہوارہ کرہ ارض کا نصف شمالی حصہ ہے شرق اوسط میں اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں اس کا پھل کھایا جاتا ہے ـ

قَرَنَ ـِ قَرْنًا ہ ب / اِلی: سے جوڑنا، ملانا، متحد کرنا، مربوط کرنا کو کا شریک کرنا، کو سے یکجا کرنا، کا سے تعلق پیدا کرنا ـ ہ الی: کو میں ملانا، شامل کرنا ـ ہ: کو جوڑنا، ملانا، لگانا، کو اکٹھا رکھنا، اکٹھا باندھنا ـ قَارَنَ ہ: کو سے متحد کرنا، کے ساتھ مل کر کام کرنا، کا شریک ہونا ـ ہ: کے ساتھ بیک وقت ہونا ـ بین ـ و بین / ہ ہ ب: کا سے مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا ـ بین شیئین: دو چیزوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا ـ بین ـ وبین: میں موازنہ کرنا ـ بینَ شیئین: دو چیزوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا ـ اَقْرَنَ بین شیئین: دو چیزوں کو ملانا، یکجا کرنا، باہم مربوط کرنا ـ اِقترن ب: سے جڑنا، ملنا، یکجا ہونا، متحد ہونا، یکجا ہونا، مربوط ہونا، میں شریک ہونا، شرکت کرنا، سے متعلق ہونا، مستلزم گردانا جانا، سے شادی شدہ ہونا، سے شادی کرنا ـــ: جڑنا، ملنا، باہم مربوط ہونا، باہم نتھی ہونا، جوڑی دار ہونا، باہم بندھا ہونا، باہم جکڑا ہوا ہونا، باہم مربوط ہو جانا ـ اِسْتَقْرَنَ: جڑے ہوئے ہونا، پھوڑے کا پکنا، پھوڑے میں پیپ پڑنا ـ قَرْن جمع قُرُون: (جانور کا) سینگ، ہوا باجے کا سینگ ـ عضو لمس، سونڈ، حشرات الارض جیسے کیڑوں اور قشریوں وغیرہ کے سروں سے سینگوں کی طرح آگے کو نکلے ہوئے تاروں میں سے ایک تار، (پہاڑ کی) چوٹی، نکلتے سورج کا سب سے پہلے نظر آنے والا حصہ، غشائی کیسہ، کویا، خول، ڈوڈا، پھلی، صدی ام القرن: گینڈا ـ وحید القرن: گینڈا ـ ذو القرنین: دو سینگوں والا (سکندر اعظم کا لقب) قرنُ البحر: مونگا، حجر البحر، مرجان ـ قرن سَمْعی: کان کا پردہ، القرون الوسطیٰ ازمنہء وسطی: (کلاسیکی عہد سے نشاۃ ثانیہ تک کا زمانہ) قَرْنِیَۃ: قرنیہ (آنکھ کے ڈھیلے اور پتلی پر چھائی ہوئی شفاف جھلی، آنکھ کے ڈھیلے کا بیرونی پردہ) قرنیہ چشم ـ قِرْن: جمع اَقْرَان: جنگ میں مد مقابل، جوڑ، ساتھی، ساجھی، ہم جولی، ہم چشم، ہم رتبہ، ہمسر، یکساں ـ قُرْنَۃ جمع قُرَن و قِرَانی: باہر نکلتا ہوا زاویہ، کونہ، گوشہ، قَرِین جمع قُرَنَاء: بندھا ہوا، جڑا ہوا، گانٹھا ہوا، مربوط، متحد، ساتھ ملایا ہوا، یکجا کیا ہوا، پیوستہ، باہم ترکیب پایا ہوا، الحاق کیا ہوا، ملحق، شریک کار بنایا ہوا ـ ساتھی، رفیق، ہمدم، شوہر قَرِینَ: اس سلسلہ میں، اس ضمن میں، سے ملکر، کے ساتھ، پر مُنْقَطِعُ القرین: بے نظیر، یکتا، یگانہ، لاثانی، بے مثال ـ فقید المثال، سے منفرد، عدیم المثال ـ قَرِیْنَۃ جمع قرینات: بیوی، عورتوں کے سروں پر مسلط آسیب (مونث) زچگی کا آسیب، تشنج حمل، جمع قَرَائِن: تعلق، جوڑ، رشتہ، الحاق، ربط، میل جول، پیوستگی، اتصال، ہم رنگی، سیاق عبارت، سیاق و سباق، قرینہ، اشارہ، دلیل، دلالت ـ السَیِّدَۃُ قرینتہُ: اس کی بیوی، بیگم (رسمی انداز) قَرَائِنَ الاَحْوال: حالات کی لڑیاں، اشارات، علامات حقائق پر مبنی شہادت ـ اَقْرَن مونث قَرْنَاء: سنگدل (مجازاً)، سخت، سینگوں والا، شاخ دار، باہم بڑھی ہوئی بھنوں والا ـ حَیَّۃ قرناء: شاخ دار سانپ ـ قِرَان: قریبی اتحاد، قریبی تعلق، کسی سیارے کا وہ مقام جب وہ زمین یا کسی اور سیارے اور سورج کے ساتھ ایک ہی قطار میں ہوتا ہے ـ دو اجرام فلکی کا قران ـ مُقَارَنَۃ جمع مقارنات: موازنہ ـ مُقَارَنَۃ اللُغات: لسانیات کا تقابلی جائزہ ـ اِقتران: تعلق، اتحاد، الحاق، کڑی، رابطہ، رشتہ، لگاؤ، واسطہ، جوڑ، بیک وقت باہم دگر عمل یا اثر، دو اجرام فلکی کا قران، نیا چاند، ہلال، شادی، بیاہ ـ مَقْرُون ب: سے جڑا ہوا، ملایا ہوا، جوڑا ہوا، ربط کیا ہوا، مربوط، یکجا کیا ہوا، متحد، ملحق، شریک کیا ہوا ـ مقرون الحاجبین: جڑی ہوئی بھنوں والا ـ مُقَارِن: تقابلی ـ قرنبیط: گوبھی، پھول گوبھی ـ قَرَنْفُل: گلنار، لونگ، لونگ کا درخت قَرَہ جُوز: تمثیلی کھیل کا اہم کردار ـ

قره: قَرِہَ ـَ قَرَھًا وتَقَرَّہَ: داد کی بیماری سے کھال میں سوراخ ہو جانا، صفت اَقْرَہُ مونث قَرْھَاءُ ج قُرْہٌ ـ ـــ جلدُہٗ: مار کی شدت سے کی جلد کا چھلنا یا سیاہ ہو جانا القَارِہُ (فا) من الجلد: خشک کھال ـ

قرو: ۱ ـ قَرَا ـُ قَرْوًا الیہ: کا قصد کرنا ـــ بالرمح فلانًا: کو نیزہ مارنا صفت مذکر قَارٍ ج قُرَاۃٌ و قَارُوْنٌ مونث قَارِیَۃ ج قَوَارٍ و قَارِیَاتٌ ـــ و اِقْتَرٰی واِسْتَقْرٰی الامرَ: کا تتبع کرنا ـ القَرْوُ: (مص) ج قُرُوٌّ و اَقْرَاء واَقْرٍ و قُرِیٌّ: نہر کی مانند لمبا حوض، کوہلو کی نالی، ایک ہی طریقے کی چیزیں، کہا جاتا ہے: ترکتھم قَرْوًا واحدا: میں نے ان کو ایک طریقہ پر چھوڑا اور کہا جاتا ہے ـ قصیدتان علی قَرْوٍ واحدٍ: دو قصیدے ایک ہی روی پر، اور کہا جاتا ہے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تَـرِکَت الارض قروًا: تمام زمین پر بارش چھاگئی۔
اصبحت الارضُ قروا واحدا: زمین کی سطح پانی سے
ڈھک گئی۔والـقَـرْوَـةُ والقِرْوَةُ والقُرْوَةَ: کتے کا
ٹھیکرا۔القَرْوَاءُ: عادت۔القَرْوٰی: عادت کہاجاتا
ہے۔رجـع الـی قرواہ: وہ اپنی عادت پرلوٹ گیا۔
القَرِیُّ: ایک ہی طریقہ کی چیزیں۔قَرِیُّ القَصِیْدَةِ:
قصیدہ کاروی۔
۲۔اَقْرٰی اِقْراءً: کی پیٹھ میں درد ہونا۔القَـرَا ج اَقْرَاءٌ
وقِرْوَانٌ (ع ا): پیٹھ۔القِرْوَانُ ج قِروانَاتٌ (ع
ا): پیٹھ یا پیٹھ کا درمیانی حصہ۔نَاقَةٌ قَرْوَاءُ: لمبے کوہان
والی اونٹنی (جمل کو اقری نہیں کہاجاتا)۔
المُقْرَوْرِیُ: لمبی پیٹھ والا۔
۳۔اِسْتَقْرٰیُ الدُّمَّل پھوڑے کا پیپ والا ہونا۔القَرْوُ
ج قُـرُوٌّ واَقْرَاءٌ و اَقْرٍ و قُرِیٌّ: کھجور کے درخت کا
نچلا حصہ جسے کھود کر اس میں نبیذ بنایا جائے، چھوٹا برتن،
لکڑی کا پیالہ۔
۴۔القَرَا (ن): کدو۔القَرْوُ ج قُرُوٌّ و اَقْرَاءٌ و اَقْرٍ و
قُرِیٌّ: کھوکھلا بانس، زمین جس کو طے نہ کیا جاسکے۔
والـقَـرْوَـةُ: خصیتین کی کھال کی کھنچاوٹ۔قَـرْوَةُ
الـرأس: سر کا کنارا۔الـقَـرْوَاءُ: دبر۔الـقَـرْوَانِـیْ:
خصیتین کی جلد کی کھنچاوٹ والا۔المَقْرٰی ج مَقَارٍ:
ٹیلہ کی چوٹی۔شَاةٌ مَقْرُوَّةٌ: جس کے سر میں ایک لکڑی
لگادیتے ہیں تاکہ وہ اپنے دودھ کو پی نہ سکے۔
◯ استـقری ہ: کا تعاقب کرنا، کا مطالعہ کرنا، کی تفتیش کرنا،
تحقیق کرنا، کا کھوج لگانا۔قَرْو جمع قُرُو: پانی پلانے
کا حوض۔خشب قَـرْو: بلوط، شاہ بلوط (لکڑی)
اِستقراء: استقراء (مخصوص حقائق سے بذریعہ استخراج
عمومی اصول وضع کرنے کا طریقہ یا نتائج کا حصول۔
اِستـقرائی: استقرائی۔قَـرُو اطیا: کرواتیا (ملک)
قَرُواطی: کرواتیا کا باشندہ۔
قری: ا۔قَـرَی ـــ قِـرًی وقِرَاءً الضیفَ: مہمان کی
میزبانی کرنا۔اَقْـرَی اِقْـرَاءً: مہمانی طلب کرنا۔
اِقْترٰی: مہمانی طلب کرنا ـــ الضیفَ: مہمان کی
میزبانی کرنا۔اِسْتَقْرَی: مہمانی طلب کرنا۔القِرٰی:
جو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے۔الـمِقْرَاءُ مونث
مِـقْرَاةٌ و مِقْرَاءُ: میزبان، بہت مہمانی کرنے والا۔
المِقْرِیْ مونث مِـقراةٌ ومِقْرَاءُ بمعنی مِـقْرَاءُ ـ و
المِقْرَاةُ ج مَقَارٍ: بڑا پیالہ جس میں مہمان کے سامنے
کھانا پیش کیا جائے۔
المَقَارِیُ: ہانڈیاں۔
۲۔قَـرٰی ـِـ قَرْیًا و قَرْیًا الماءَ فی الحوض: حوض
میں پانی جمع کرنا ـــ البعیرُ و کلُّ ما اجترَّ: اونٹ
اور ہر جگالی کرنے والے جانور کا جگالی کو جبڑے میں
جمع کرنا ـــ ت المِدَّةُ فی الجرح: زخم میں پیپ کا
جمع ہونا، کہاجاتا ہے: قَـرَیْـتُ فـی شِدقِی جوزَةً:
میں نے اپنے جبڑے میں اخروٹ کو چھپایا۔اَقْـرٰی
اِقْـرَاءً: گاؤں میں رہنا، کسی شئی سے لازم رہنا اور اس
پراصرار کرنا۔القَارِیُ (فا): دیہاتی کہاجاتا ہے جاء
نـی کـل قـارٍ وبـادٍ: میرے پاس ہر ایک دیہاتی اور
بادیہ نشین آیا۔الـقَـارِیَةُ: ج قَوَارٍ مونث القاری
کا: لوگوں سے بھری ہوئی جگہ۔القَارَاةُ ج قَارَیَاتٌ:
لوگوں سے بھرا ہوا مکان۔الـقِـرٰی: پانی جو حوض میں
جمع کیا گیا ہو۔الـقَرْیَةُ والقِرْیَةُ ج قُرًی و قِرًی:
اور نسبت قَـرَوِیٌّ و قَـرَیِـیٌّ: جائیداد، لوگوں کی
جماعت، گاؤں ـــ قـریة النمل: چیونٹیوں کے
رہنے کی جگہ۔قَـریة الانـصـار: مدینہ طیبہ یعنی
یثرب۔القَرْیَتَانِ: مکہ معظمہ اور طائف۔القَرِیَّةُ ج
قَـرَایَـا: چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔الـمَـقْـرٰی
والمِقْرَاةُ: ہر وہ جگہ جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔
۳۔قَـرَی ـِـ قَرًی و قَرْیًا الجرحُ: زخم کا بہنا ـــ
وتَـقَـرَّی واِسْتَقْرَی البلادَ: کا سراغ لگانا میں چکر
لگانا۔اقتـری البلادَ: کا سراغ لگانا اور اس میں گھومنا
پھرنا ـــ فلانا بقوله: کا کھوج لگانا۔القَرِیُّ ج
اَقْـرِیَةٌ و اَقْـرَاءٌ و قُـرْیَـانٌ: ٹیلے سے باغ کی طرف
بہنے والی نالی، نالی کہاجاتا ہے جری الوادی فطمّ
الـقَـرِیّ: وادی بہہ پڑی نالیاں بھر گئیں۔یہ مثال کسی
بہت بڑے حادثے کے رونما ہونے پر دی جاتی ہے
جس میں چھوٹے چھوٹے واقعات ومصائب ہیچ ہو
جاتے ہیں جس طرح کہ نہر کا پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں
پر چھا جاتا ہے۔
۴۔القَارِیَةُ ج قَوَارٍ: تلوار کی دھار۔نیزہ کا نچلا یا اوپر والا
حصہ۔والـقَـارِیَّةُ ج قَـوَارٍ وقَـوَارِیُّ (ح): ایک
پرندہ جس کی ٹانگیں چھوٹی اور چونچ لمبی اور پیٹھ سبز ہوتی
ہے، کہاجاتا ہے۔هـم قواری الله: وہ اللہ کے امین
اور شہداء ہیں۔الـقَـرِیُّ ج اَقْـرِیَةٌ و اَقْـرَاءُ و
قُـرْیَـانٌ: جما ہوا دودھ۔الـقَـرِیَّةُ ج قَـرَایَـا: لاٹھی،
بادبان کے اوپر کی لکڑی جو عرض میں لگائی جاتی ہے۔
الـقِـرَایَةُ: پڑھائی کے وقت صلاۃ کی کتابیں رکھنے والی
پھٹی۔
◯ قَـرَی ـِـ قِرًی ہ: کی مہمان نوازی کرنا، خاطر مدارات
کرنا۔اَقْـتَـرَی: بمعنی بالا۔قِـرًی: مہمان نوازانہ
marfat.com

ڈھوک، دہ، چھوٹا گاؤں، قصبہ، دیہاتی لوگ۔
الـقـریتان: مکہ وطائف، مکہ و مدینہ۔ام الـقُری:
مکہ۔قَـرَوِی: دیہاتی، گاؤں کا، دہقانی، گنوار جمع
قَـرَوِیُون: دیہاتی، قروان کا باشندہ، فیض (مراکش)
میں القروبة کالج کا رکن۔جامع القرویین:
مراکش کے شہر فیض میں جامع مسجد اور کالج۔وزارة
الشـؤون البـلـدیة والقـرویة: بلدیاتی اور دیہاتی
امور کی وزارت۔قَـرَوِیَة: دیہاتی عورت، کسان
عورت۔قَرِیَة جمع قَرَایة گز (بحری)۔مِقْرًی: بہت
مہمان نواز۔مِقْراء: بہت مہمان نواز۔قَارٍ: دیہاتی،
گاؤں کا رہنے والا۔قُرَیْدِس: ایک قسم کا جھینگا۔
قزّ: ا۔قَزَّ ـِـ قَزًّا: کودنے کے لئے سمٹنا کودنا۔القَازُّ (فا):
شیطان۔القَزَازُ (ح): بہت بڑا سانپ، اژدہا۔
۲۔قَـزَّ ـُـ قَزًّا ت نفسی الشیْءَ و عن الشیْءِ: سے
نفرت کرنا، انکار کرنا۔قَـزْقَزًا و تَقَزَّزَ س الدنس
و کـل مایُسْتَقْذَر و یُسْتَخْبث کو مکروہ جاننا۔سے
پرہیز کرنا۔بچنا۔الـقَـزُّ و القِزُّ و القَزَزُ و القُزَّازُ:
گندگی، کہاجاتا ہے۔مـافـی طـعامه قَزٌّ ولا قُزٌّ ولا
قزازة: اس کے کھانے میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے
پرہیز کیا جائے اور اسے مکروہ سمجھا جائے۔
۳۔القَازُوزَةَ: چھوٹی شیشی، طشت۔القُزُّ ج قُزُوزٌ: ریشم
خام ریشم (فارسیہ)۔دُوْدُ الـقَزِّ (ح): ریشم کا کیڑا۔
القَزَّازُ: ریشم بیچنے والا ـــ عـنـد العامة: ریشم کے
کیڑے کی تربیت کا ماہر۔الـقُـزَیْـزَةُ (ن): بلور کی
جڑی بوٹی (عامیہ)۔
◯ قَـزَّ ـُـ قَزًّا ہ / ھ / عن: سے بے حد نفرت کرنا، کراہت
کرنا۔قَزَّزَ ہ: کو کانچ میں تبدیل کرنا، پر شیشہ لگانا یا جڑنا،
کو صقیل کرکے چمکا دینا۔تـقَزَّزَ من / عن: سے بے
حد نفرت کرنا، کراہت کرنا، کو ناپسند کرنا، سے طبیعت
مالش کرنا، قے آنا، متلی ہونا، سے بے زاری محسوس
کرنا۔قَـزّ جمع قُـزُوز: ریشم، خام ریشم۔قِـزاز: کانچ،
قَزَّاز: ریشمی کپڑے کا تاجر۔قِـزازة جمع قَزَازات و
قَـزَائز: بوتل۔قَازُوزَہ: سوڈا واٹر۔تَـقَزُّز: نفرت،
بیزاری، کراہت، تنفر۔قَزَان جمع قَزانات: کیتلی، بڑی
دیگ۔
قزح: ا۔قَزَحَ ـَـ قَزْحًا القِدرَ: ہانڈی میں مسالہ ڈالنا۔
قَزَّحَ القِدرَ: ہانڈی میں مسالہ ڈالنا ـ الحدیث:
کو مزین کرنا، بغیر جھوٹ بولے ہوئے پورا کرنا۔
الـقَـزْحُ: مسالہ۔الـقِـزْحُ ج اَقْزَاحٌ: مسالہ۔
الـقَـزَّاحُ: مسالہ بیچنے والا۔الـتَـقَـازِیْحُ: مسالے۔
المِقْزَحَةُ: مسالہ کا برتن۔مسالہ دان۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ قَزَحَ ـَـ قَزْحًا الشیئُ: بلند ہونا۔ قَزَحَ قَزْحًا و قَزَحَانًا ت القِدرُ: ابلنا۔ سِعرٌ قازِحٌ مونث قَازِحَةٌ ج قَوَازِحُ: مہنگا بھاؤ۔ قَوَازِحُ الماءِ: پانی کے بلبلے۔ قَوسُ قُزَحٍ و قَوسُ قُزَحَ: دھنک، وہ شکل جو بادل میں مختلف رنگوں کی کمان کے مانند دکھائی دیتی ہے۔ قُزَحُ منصرف ہے کیونکہ یہ قُزحَةٌ کی جمع ہے اور علم معدول کی تقدیر پر غیر منصرف ہے اور قزح کو اس سے جدا استعمال نہیں کرتے (لاتـأمّل قَزَحَ ـالبَینَ قوسہٗ نہیں کہا جائیگا) اور بقول بعض قزح ایک فرشتہ ہے جسے بادلوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور بقول بعض شیطان یا افسانوی معبود۔ عام لوگ اسے قوس القدح کہتے ہیں۔ القُزحَةُ ج قُزَحٌ: قوس قزح کے رنگ کی ایک دھاری۔

۳۔ قَزَحَ الشجرُ: بڑھنے کے لئے درخت کی جڑ میں پیشاب ڈالنا۔ المِقزَحُ (مص) کتے کا پیشاب۔ تَقَزَّحَ النباتُ اوالشجرُ: زیادہ شاخدار ہونا۔

۴۔ القِزحُ ج اَقزاحٌ (ز): پیاز کے بیج، سانپ کی بیٹ۔

○ قَزَّحَ ہ (اپنی تقریر) کو چٹپٹا بنانا۔ قُزَحِیَةٌ: آنکھ کی تِلّی کی جھلی۔

قزع: ۱۔ قَزِعَ ـَـ قُزُوعًا: دیر کرنا۔ الظَّبیُ: ہرن کا دوڑنا۔ بھاگنے میں چست ہونا۔ قَزَّعَ الفرسَ: گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لئے آمادہ کرنا۔ تیز دوڑنا۔ الرسولَ بہٖ: کی طرف قاصد بھیجنا۔ ــ واَقزَعَ ہٗ لـلامرِ: کو کے لئے فارغ کردینا اور دوسرے کام میں مشغول نہ کرنا۔ تَقَزَّعَ الفرسُ: دوڑنے کے لئے تیار ہونا۔ المُقَزَّعُ: ہلکا پھلکا تیز، بشارت کے لئے مخصوص کیا ہوا خوش خبری دینے والا۔

۲۔ قَزَّعَ الشاربَ: مونچھ کاٹنا۔ راسَہٗ: کا سر مونڈنا اور کچھ ادھر ادھر چھوڑ دینا۔ تَقَزَّعَ الراسُ: متفرق جگہ سے سر کا مونڈا جانا۔ ــ القومُ: قوم کا متفرق ہونا۔ ــ السحابُ: بادل کھل جانا۔ القَزَعُ واحد قَزَعَةٌ: کچھ بالوں کو کچھ مونڈنا اور کچھ کو چھوڑ دینا، ہر چیز جس کے متفرق ٹکڑے ہوں، بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ بچے کے سر کے کچھ بال مونڈنا اور کچھ چھوڑ دینا، وادی کا کوڑا کرکٹ، چھوٹے اونٹ۔ قَزَعُ السہمِ: تیر کے پر کا پتلا حصہ۔ القَزَعَةُ: سر میں متفرق کٹے ہوئے بال، بادل کا ٹکڑا، کہا جاتا ہے ما عِندَہٗ قَزَعَةٌ: یعنی اس کے پاس کچھ کپڑا نہیں۔ القِزَاعُ: چیتھڑے کا ٹکڑا، کہا جاتا ہے مافی السماءِ قِزَاعٌ: یعنی آسمان میں تھوڑا سا بھی بادل نہیں۔ القُزَّعَةُ القُبَّعَةُ: بالوں کا گچھا جو بچے کے سر پر چھوڑ دیا جائے، سر کے درمیان میں تھوڑے سے بال۔ الاَقزَعُ من الکباش: مینڈھا جس کے بال موسم بہار میں کہیں سے گرگئے ہوں کہیں سے باقی رہ گئے ہوں۔ المُقَزَّعُ: وہ شخص جس کے سر پر کچھ ادھر ادھر تھوڑے سے بال ہوں۔ ــ من الخیل: پیشانی پر کم بالوں والا گھوڑا۔ رجلٌ مُقَزَّعٌ: وہ شخص جس کا مال برباد ہو جائے صرف چھوٹے اونٹ رہ جائیں۔

۳۔ اَقزَعَ لہٗ فی القول: کو سخت سست کہنا۔

۴۔ القَزَعَةُ حرامی، ولدالزناء۔

قزل: قَزَلَ ـِـ قَزْلًا و قَزَلَانًا: کودنا، لنگڑے کی چال چلنا۔ قَزِلَ ـَـ قَزَلًا لنگڑا ہونا صفت اَقزَلُ۔ القَزَلُ: بدترین لنگڑاہٹ

○ قَزَع واحد قَزَعة: ہوا سے پھٹے ہوئے بادل، ہلکی بوچھاڑ، بالوں کا گچھا۔ قُزعة: بونا ٹھگنا، ناٹا، پست قد، بالشتیا۔ قَزِیعة: بالوں کا گچھا۔

○ قَزقَزَ ہ (اخروٹ وغیرہ) توڑنا۔

○ قَزَل: لنگڑاہٹ، لنگڑا کر چلنا۔

قزم: ۱۔ قَزَمَ ـِ قَزمًا ہٗ: پر عیب لگانا۔ قَزِمَ ـَـ قَزَمًا: کمینہ ہونا، لئیم ہونا۔ القَزِمُ مونث قَزِمَةٌ: لئیم اور دنی مرد۔ القَزَمُ (مص): کمینگی، کنجوسی، ردی مال، حقیر لوگ (واحد جمع مذکر و مونث کیونکہ یہ مصدر ہے) کہا جاتا ہے ھولاء قومٌ قَزَمٌ ما فیھم کَرَمٌ: یہ لوگ کمینے ہیں ان میں کرم نہیں اور کبھی تثنیہ اور جمع اور مونث استعمال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے رجلٌ قَزَمٌ رجلان قَزَمَان وامرأةٌ قَزَمَةٌ ورجالٌ قُزُمٌ و اَقزَامٌ و قَزَامَی و نساءٌ قَزَمَاتٌ ــ مونث قَزَمَةٌ والـقَزِمُ مونث قَزِمَةٌ: کمینہ اور لئیم مرد۔ ــ ج قُزُمٌ و اَقزَامٌ: چھوٹے جسم والا کمینہ بے خیر کہا جاتا ہے رجل قَزَمَة وامراة قَزَمَة: چھوٹے جسم کا مرد چھوٹے جسم کی عورت مذکر و مونث دونوں کے لئے۔ القُزُمُ مونث قُزُمَةٌ لئیم اور کمینہ مرد۔ القِزَامُ لئیم لوگ۔

۲۔ تَقَزَّمَ: کاموں میں زبردستی داخل ہونا۔ القُزَامُ: جس پر کوئی غالب نہ آئے، جلدی کی موت۔

۳۔ سُوددٌ اَقزَمُ: سرداری جو خاندانی نہ ہو۔

۴۔ القَزمَلُ: کوتاہ قامت، بدصورت۔

○ قَزَم جمع اقزام: بونا، ٹھگنا، ناٹا، پست قد، بالشتیا، للّی پٹ کا بونا، ٹھگنا آدمی۔ قُزمُوغرافیا: کائنات نگاری۔ قزموغرافی: کائنات نگاری کا یا سے متعلق۔ بحر قَزوِین: بحر کسپین۔

قزو: قَزَا ـُـ قَزوًا الارضَ بعصاہٗ: زمین کو لاٹھی سے کریدنا۔ ــ الرجلُ: عیب سے دور رہنا، قُزَۃ (ایک کھیل) کھیلنا۔ اُقزِیَ: بے عیبی کے بعد عیب دار ہونا۔ القُزَّةُ ج قُزَاتٌ: عربوں کا ایک کھیل، (ح) سانپ

قزی: قَزَّی الرجلَ: کو پچھاڑنا اور قتل کرنا۔ القِزیُّ: لقب، کہا جاتا ہے بئس القِزیُّ ھذا: یہ برا لقب ہے۔

قس: قَسَّ ـُـ قَسًّا و قِسًّا و قُسًّا: چغل خوری کرنا۔ ــ القومَ: کو برے کلام سے تکلیف پہنچانا۔ قَسَّ قَسًّا و تَقَسَّسَ الشیئَ: کو طلب کرنا اور ڈھونڈنا۔ کہا جاتا ہے تَقَسَّسَ اصواتھم باللیل: اس نے رات میں ان کی آواز پر کان لگایا۔ القَسَّاسُ چغل خور۔

۲۔ قَسَّ ـُـ قُسُوسَةً و قِسِّیسَةً: پادری ہونا۔ القَسُّ ج قُسُوسٌ: پادری، کاہن (سریانیہ)۔ القِسِّیسُ ج قِسِّیسُونَ و قُسَّانٌ و اَقِسَّةٌ و قَسَاوِسَةٌ: پادری۔ القُسُوسَةُ و القِسِّیسِیَّةُ: پادری کا درجہ یا حالت۔

۳۔ قَسَّ ـُـ قَسًّا ما علی العظم: ہڈی پر کا گوشت کھانا اور گودا نکالنا۔ اِقتَسَّ الاسدُ: شیر کا خوراک تلاش کرنا۔

۴۔ قَسَّ ـُـ قَسًّا و قَسَّ الابلَ: اونٹوں کو اچھی طرح چرانا۔ اِقتَسَّ ـ ت الناقةُ: اونٹنی کا تنہا چرنا۔ القَسُّ: اونٹوں کا مالک جو ان سے جدا نہ ہو۔

۵۔ قَسَّ ـُـ قَسًّا السیرَ: تیز چلنا۔ القُسُسُ: ماہر ہانکنے والا۔

۶۔ القَسُّ: پالا۔ القُسُسُ: عقلاء۔ القُسَاسُ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ، آرمینیہ میں ایک پہاڑ جس میں لوہے کی کان ہے اور اس سے ہے السیوف القساسیة۔ القَسَّةُ: چھوٹی بستی، چھوٹی مشک۔ القَسُّوسُ (ن): عشق پیچہ۔ القَسِّیُّ من الدراهم: زدی دراہم۔

○ قَسَّ ـُـ قَسًّا ہ کا تعاقب کرنا، کھوج لگانا، کی سخت کوشش کرنا، کی آرزو کرنا، قَسّ و قِس جمع قُسُوس و قُسس: پادری، دوسرے درجے کا پادری، پادری کا مددگار۔ قَسّ: (بمعنی قصّ): سینے کی ہڈی، قَسَّاس: بہتان لگانے والا، غیبت کرنے والا۔ قِسِّیس جمع قسیسون و قَسَاوِسة و قُسَان و اَقِسَّة بمعنی قَس و قِس۔ قُسُوسة: کلیسا کے عہدہ دار، پادری کا عہدہ یا کردار، پادری کا منصب۔ رِسَامَة قُسُوسِیَة: پادریوں کا تقرر۔

قسب: ۱۔ قَسَبَ ـِـ قَسْبًا الماءُ: پانی جاری ہونا۔ قَسِیبُ الماءِ: پانی کا بہاؤ آواز کے ساتھ۔

۲۔ قَسَبَ ـِ قَسَبَات الشمسُ: آفتاب غروب ہونے لگنا۔

۳۔ قَسُبَ ـُـ قُسُوبًا و قُسُوبَةً الشیئُ: سخت ہونا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

القَسْبُ واحد قَسْبَةٌ: بہت سخت ـــ والقِسْيَبُ: ہر ایک لمبی اور مضبوط چیز۔

۴۔ القَسْبُ واحد قَسْبَةٌ: خشک کھجور جو منہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ القُسَابَةُ: ردی قسم کی کھجور۔ القَسُوبُ: چمڑے کا موزہ۔

قسح: قَسَحَ ـَ قَسَاحَةً و قُسُوحَةً: سخت ہونا ـــ الحبل: رسی بٹنا۔ قاسحَ ہٗ: سے سختی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ القَاسِحُ و القُسَاحُ و المَقْسُوحُ: سخت اور موٹا، کہا جاتا ہے۔ ثوبٌ قاسِح: موٹا کپڑا اور رمحٌ قاسح: ٹھوس مضبوط نیزہ۔

قسر: ا۔ قَسَرَ ـِ قَسْرًا و اِقْتَسَرَہٗ علی الامر: کو پر مجبور کرنا۔

۲۔ قَسْوَرَ الرجُلُ: عمر رسیدہ ہونا۔ النبتُ: بکثرت ہونا۔ القَسْوَرُ ج قَساوِرُ و قَسَاوِرَةٌ: غالب، (۲) شیر، بہادر قوی لڑکا۔ القَسْوَرَةُ ج قَسَاوِرُ و قساوِرَةٌ بمعنی القَسْوَرُ ـ ج قَسْوَرٌ: رات کا بڑا حصہ، ایک میدانی نباتات۔

ⓒ قَسَرَ ـِ قَسْرًا ہٗ علی: کو پر مجبور کرنا ـــ ہ / ھ: کو فتح کرنا، محکوم بنانا، مغلوب کرنا، تسخیر کرنا، مطیع کرنا، زیر کرنا۔ اِقْتَسَرَ: بمعنی بالا۔ قَسْر: زبردستی، مجبوری، دباؤ، جبر، پابندی۔ قَسْرًا: بذریعہ طاقت، بزور، جبرا، لازما، لازمی طور، چار و ناچار، ناگزیر طور پر، زبردستی سے۔ اِقتسار: فتح، تسخیر، تغلب، محکومی۔

قسط: ا۔ قَسَطَ ـِ قِسْطًا و اَقْسَطَ الوالی: منصف ہونا، کہا جاتا ہے اَقْسَطَ فی حکمہ و اقسط بینھم و الیھم: اس نے فیصلہ میں انصاف کیا۔ ان کے درمیان انصاف کیا۔ قَسَّطَ الشیئَ: کو جدا جدا کرنا۔ الاغراسَ: پودوں کے درمیان برابر فاصلہ کرنا ـــ الدَّیْنَ: قرض کی قسطیں مقرر کر دینا کہا جاتا ہے قَسَّطَ الخراجَ علیھم و المالَ بینھم: یعنی خراج کی ان کے اوپر قسطیں مقرر کر دیں اور مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تَقَسَّطَ القومُ الشیئَ بینھم: کو کے درمیان برابر تقسیم کرنا۔ اقتسطوا المالَ بینھم: کو کے درمیان تقسیم کرنا۔ القِسْط ج اَقْسَاط: انصاف (کہا جاتا ہے۔ ھو او ھم قِسطٌ: یعنی وہ عادل ہے یا وہ عادل ہیں) حصہ، مقدار، میزان، ترازو، پیمانہ نصف صاع کا، روزی، قسط (مقرر کئے ہوئے قرض کا ایک حصہ۔) القُسْطان: غبار۔ المُقْسِط: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے اس کے معنی عادل کے ہیں۔

۲۔ قَسَطَ ـَ قَسْطًا و قُسُوطًا: ظلم کرنا، حق سے ہٹ جانا صفت قاسط ج قُسَّاطٌ و قَاسِطُونَ۔ رجُلٌ قَسْطَاء: ٹیڑھا پیر۔

۳۔ قَسِطَ ـَ قَسَطًا ت العُنُقُ: گردن کا خشک ہونا۔ ت الدابَّةُ: سیدھی ٹانگوں والا ہونا۔ قَسِطَ قُسُوطًا ت العِظامُ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا خشک ہونا۔ اَقْسَطَ ت الریحُ العیدانَ: ہوا کا لکڑیوں کو خشک کر دینا، کہا جاتا ہے۔ ھو قُسُطُ الرِجْلِ و قَسِطُھا: اس کے پاؤں سخت اور سیدھے ہیں چلنے میں مڑتے نہیں۔ القَسَطُ (مص): اعضاء کی سختی یا خشکی۔ الاَقْسَط مونث قَسْطَاءُ ج قُسْطٌ: خشک شدہ گردن والا، سخت اور خشک اعضا والا عُنُقٌ قَسْطَاء: خشک گردن۔ رُکْبَةٌ قسطاء: خشک زانوں جو سکڑ سمٹ نہ سکے۔

۴۔ قَسَّطَ علی عیاله: اہل و عیال پر تنگی کرنا۔

۵۔ القُسْطُ: عود ہندی۔ القُسْطَانُ و القُسْطَانَةُ و القُسْطَانِیُّ و القُسْطَانِیَّةُ: قوس قزح، دھنک۔

۶۔ قَسْطَرَ الدراھمَ: دراہم کو پرکھنا۔ القَسْطَرُ و القَسْطَارُ: دانا مرد۔ القَسْطَرِیُ ج قَسَاطِرَةٌ: دراہم کو پرکھنے والا، دانا و دوربین نگاہ مرد، بڑے ڈیل ڈول کا۔

۷۔ القُسْطَاسُ و القِسْطَاسُ: ترازو۔

۸۔ القَسْطَلُ ج قَسَاطِلُ: میدان جنگ کا گرد و غبار، لوہے وغیرہ کی نالی جس میں پانی بہتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قسطر و قساطِر ہے (ن): شاہ بلوط یا اس کی لکڑی اُمُّ قَسْطَلُ: مصیبت، موت۔ قَسَاطِلُ الخَیْلِ: گھوڑوں کی آوازیں۔ القَسْطَلَةُ: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔ قَسْطَلَةُ المَاءِ: پانی بہنے کی آواز۔ قَسْطَلَةُ الحصان (ن): بمعنی کستنة الحصان۔ القَسْطَالُ و القُسْطُولُ ج قَسَاطِلُ: میدان جنگ کا گرد و غبار۔ نَھرٌ قِسْطَالٌ: بہنے میں شور کرنے والا دریا۔ القَسْطَلَانُ ج قَسَاطِلُ: میدان جنگ کا گرد و غبار۔ القَسْطَلَانِیُّ: قوس قزح، دھنک۔ القَسْطَلَانِیَّةُ: شفق کی سرخی، غبار کی کثرت، قوس قزح

ⓒ قَسَّطَ ہ: قسطوں میں ادا کرنا، کو تقسیم کرنا۔ اَقْسَطَ: انصاف کرنا۔ قِسط: انصاف، عدل، معقولیت، درستی، صحت، صداقت، (واحد و جمع) صحیح، عادلانہ، منصفانہ، منصف مزاج۔ سچا، صحیح، درست، جمع اَقساط: حصہ، جز، تقسیم، حصہ مقررہ، قسط، مقدار، کمیت، اندازہ، ناپ تول، حد۔ علی اقساط: قسطوں میں، بتدریج کان علی قسط کبیر من: بڑی حد تک خصوصیت [illegible] سختی۔ اَقْسَط: زیادہ عالدانہ، زیادہ منصفانہ، صحیح تر۔ تقسیط: قسطوں میں ادائیگی، بالتقسیط: قسطوں میں بتدریج۔ مُقْسِط: منصف، عادل، عادلانہ، عدل کار، منصفانہ، قَسْطَرَ ھ: سکوں کا کھرا پن جانچنا۔ قُسطاس و قِسطاس جمع قساطِیس: ترازو، میزان۔ قَسْطَلٌ جمع قَساطِل: پانی کا نل، آب رسانی کا بڑا نل۔ بلاد القَساطِلة: ہسپانیہ۔ القُسْطَنْطِینِیة: ترکی کے ایک شہر کا نام

قسم: ا۔ قَسَمَ ـِ قَسْمًا الشیئَ: کا تجزیہ کرنا۔ الدھرُ القومَ: کو متفرق کرنا عدداً علی آخر: کسی عدد کو دوسرے پر تقسیم کرنا جیسے 195 کو 13 پر (یا سے) تقسیم کیا جائے تو 195 مقسوم اور 13 مقسوم علیہ ہوگا اور جواب 15 حاصل قسمت کہلائے گا۔ قَسُمَ ـُ قَسَامَةً الغلامُ: لڑکے کا خوبصورت ہونا۔ قَسَّمَ الشیئَ: کو جزء جزء کرنا۔ متفرق کرنا۔ (کہا جاتا ہے قَسَّمَ الدھرُ القومَ: زمانے نے قوم کو متفرق کر دیا) کو خوبصورت بنانا۔ قَاسَمَہُ المالَ: مال میں سے اپنے اپنے حصہ کو لینا۔ تَقَسَّمَ الشیئَ: جدا جدا کرنا ـــ الشیئُ: جدا جدا ہونا کہا جاتا ہے تقسمتهُ الھمومُ: یعنی غموں نے اسے پریشان خاطر کر دیا۔ تَقَاسَمَ و اِقْتَسَمَ القومُ المالَ: آپس میں مال تقسیم کرنا۔ اِنْقَسَمَ: تقسیم ہونا۔ اِسْتَقْسَمَ: تقسیم کرنے کو کہنا۔ قاسم او عاد عددِ صحیح: وہ عدد جو پورا پورا تقسیم ہو جائے۔ القاسم الاکبر لعدد ما: نسبت نما (ریاضی) القاسم المشترك بین عدة اعداد: ایسا مشترکہ عدد جو سب پر تقسیم ہو جائے۔ اَلْقَسْمُ: (مص) عطیہ، ہانڈی۔ حصاة القَسْمِ: پانی تقسیم کرنے کی کنکری اور یہ اس طرح پر کہ سفر کی حالت میں جب پانی کی کمی ہوتی تھی تو ایک برتن میں کنکری ڈالتے تھے اتنا کہ کنکری چھپ جائے پھر ایک آدمی کو پینے کے لئے دیتے تھے پھر اسی طرح کرتے تھے یہ اس لئے تاکہ سب کو پانی برابر پہنچ جائے اور کسی کو شکایت نہ رہے۔ القِسْمُ ج اَقْسَامٌ جج اَقَاسِمُ: تقسیم شدہ چیز کا حصہ، خیر کا حصہ۔ القِسْمَةُ ج قِسَمٌ: اقسام (یعنی تقسیم) حصہ۔ قِسْمَةٌ: کی دو قسمیں ہیں۔ ا۔ توافقیہ (ع ح) ۲۔ لا توافقیہ: صحیح تقسیم غیر صحیح تقسیم القَسَمَةُ ج قَسَمَاتٌ اور القَسِمَةُ ج قَسِمَاتٌ: چہرہ، خوبصورتی۔ القَسَامُ و القَسَامَةُ: خوبصورتی۔ القُسَامَةُ: تقسیم کرنے والا جس کو اپنے لئے خاص کر لے۔ صدقہ کا مال۔ القَسَامِیُّ: دو چیزوں کے درمیان کی چیز، پہلی تہہ پر

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کپڑے کو لپیٹنے والا۔ القَسَّامُ: قاسم کا مبالغہ۔ القَسِیمُ ج اَقْسِمَاءُ: حصہ، تقسیم شدہ چیز کا نصف، تقسیم کرنے والا۔ خوبصورت القَسِیْمَةُ ج قَسَائم: القسیم کا مونث۔ خوبصورت چہرہ الاُقْسُومَةُ ج اَقَاسِیْمُ: حصہ۔ المُقْسَمُ و المِقْسَمُ ج مَقَاسِمُ: حصہ۔ المَقْسِمُ ج مَقَاسِمُ: تقسیم۔ تقسیم کرنیکی جگہ۔ صاحبُ المَقَاسِم: نائب امیر اور وہ اموال غنیمت کا تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ المُقَسَّمُ: خوبصورت۔ رجُلٌ مُقَسَّمُ الوجه: مکمل خوبصورت وتناسب جسم والا شیئٌ مُقَسَّمٌ: خوبصورت بنائی ہوئی چیز۔

۲۔ قَسَمَ ـ قَسْمًا فلانٌ امرَهُ: کا اندازہ کرنا، پرغور کرنا تقَسَّمَ فلانٌ فکر کرنا، سوچنا۔ اِسْتَقْسَمَ: فکر کرنا، سوچنا۔ القَسْمُ: رائے، شک گمان پیدا ہونا پھر قوت پا کر یقین ہو جانا۔ المُقَسَّمُ: (مفع) غمگین۔

۳۔ قَاسَمَ هُ علی کذا: کو پر قسم کھلانا۔ اَقْسَمَ باللّٰه: اللہ کے نام پر حلف اٹھانا، اللہ کی قسم کھانا۔ تَقَاسَمَ القومُ: آپس میں قسم کھانا۔ اِسْتَقْسَمَ هُ باللّٰه: سے اللہ کی قسم کھانے کو کہنا۔ القَسَمُ ج اَقْسَامٌ: اللہ تعالیٰ یا غیر اللہ کی قسم۔ القَسَامَةُ: جماعت جو کسی چیز کے لئے قسم کھائے اور لے لے، قسم جو اولیاء مقتول کو دی جائے (کہا جاتا ہے حکم القاضی بالقسامة: قاضی نے قسامت کا فیصلہ کیا قسم پر فیصلہ کیا اور قَسَامَةٌ اَقْسَمَ کا اسم ہے جو مصدر کی جگہ پر استعمال ہوا ہے)۔ صلح۔ التَقْسِیْمُ ج تقاسِیْمُ، علی المحنون عندالنصاری: کاہن کی صلوات جسے وہ شیطان کو پاگل سے بھگانے کے لئے پڑھتا ہے۔ المُقْسَمُ: قسم۔

۴۔ القَسْمُ: اخلاق، عادت، بارش، پانی۔ القَسِمُ والقَسَمَةُ ج قَسَمَاتٌ: والقَسِمَةُ ج قَسِمَاتٌ: عطر فروش کا ڈبہ۔ القَسَامُ: گرمی کی شدت۔ القَسِیْمَةُ ج قَسَائِمُ: عطر فروش کا ڈبہ، بازار۔

○ قَسَمَ ـِ قسمًا ہ: کو تقسیم کرنا، جدا کرنا، ٹکڑیوں میں بانٹنا۔ ہ علی: کو کے درمیان تقسیم کرنا۔ ل فی: کو کا کچھ حصہ دینا، کو کچھ الاٹ کرنا۔ ہ الی: کو میں تقسیم کرنا، کو میں ترتیب دینا، درجہ بندی کرنا۔ ل / علی ہ: اللہ یا قسمت کا کسی کو کچھ تفویض کرنا۔ ہ علی: عدد کو دوسرے عدد سے تقسیم کرنا۔ قَسَّمَ ہ: کو تقسیم کرنا، جدا کرنا، ٹکڑیوں میں بانٹنا۔ ہ بین: کو کے درمیان تقسیم کرنا۔ ہ ہ / الی: کے میں حصے کرنا۔ ہ: کو ابواب یا دفعات میں تقسیم کرنا۔ ہ / اِلی: کو میں ترتیب دینا، کی میں درجہ بندی کرنا۔ ہ: کو حصوں میں تقسیم کرنا۔ ہ: کو نیاز چڑھانا، دینی کام کے لئے وقف کرنا (مسیحیت میں)۔ علی: سے جھاڑ پھونک کر کے آسیب اتارنا۔ قَاسَمَ ہ ہ: کے ساتھ کا حصہ پانا۔ ہ علی: حلف کے ساتھ خود کو کسی کا یا کچھ کرنے کا پابند کرنا۔ اَقْسَمَ ب: کی قسم کھانا۔ ل علی: سے کا عہد کرنا۔ علی اَن: کچھ کرنے کی قسم کھانا، کچھ کرنے کا عہد کرنا۔ اقسم علیہ اِلَّا فَعَلَهُ: سے کچھ کرنے کی قسم لینا، سے کچھ کرنے کی التجا کرنا۔ اقسموا جَهْدَ اَیْمَانِهِمْ: انہوں نے ہر جائز اور مقدس چیز کی قسم کھائی، انتہائی، سنجیدہ قسم کھائی۔ اقسم بمُقَدَّساتِهِ: اس نے ہر مقدس چیز کی قسم کھائی۔ تَقَسَّمَ: منقسم ہونا، جدا ہونا، ٹکڑیوں میں بٹنا، تقسیم ہونا، بٹنا، حصے بخرے ہونا۔ ہ ہ: کو اپنے درمیان تقسیم کرنا۔ ہ: کو بکھیرنا، تتر بتر کرنا، منتشر کرنا، دور کرنا۔ ہ: کو المناک طور پر گھیر لینا۔ کو مشترکہ طور پر دق کرنا، ستانا، پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا۔ تَقَسَّمُوهُ ضربًا و جیعًا: انہوں نے اس کی سخت پٹائی کی، انہوں نے باری باری اسے تکلیف دہ گھونسے اور مکے مارے۔ تَقَاسَمَ ہ: کو آپس میں تقسیم کرنا۔ ہ (خیالات، پریشانیوں وغیرہ کا) کسی کو گھیر لینا، پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا۔ اِنْقَسَمَ: تقسیم ہونا، جدا ہونا، ٹکڑیوں میں بٹنا، منتشر ہونا، علیحدہ ہونا، الگ ہونا۔ اِلی: میں تقسیم ہونا، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہونا، حصے ہونا۔ اِقْتَسَمَ ہ: کو آپس میں تقسیم کرنا، بانٹنا۔ اِسْتَقْسَمَ: (دیوی، دیوتا، خدا) سے دانشمندانہ مشورہ دینے کی درخواست کرنا۔ قِسم جمع اَقْسَام: حصہ، مختص حصہ، تقسیم، درجہ، قسم، محکمہ، شعبہ، گروہ، جماعت، ضلع، نواح، پولیس سٹیشن۔ محافظ کا انتظامی ذیلی دفتر، ذیلی کمیٹی، نوع، قسم، نمونہ، صنف، فرع قِسْمَة: تقسیم کرنا، تقسیم، درجہ بندی، حصہ، مقررہ حصہ، تقسیم حصص، بٹائی، حصہ داری۔ علی: پر تقسیم (ریاضیات) جمع قِسَم: حصہ، مقدر، نصیب، تقدیر (اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ٹھہرائی ہوئی) قَسَم جمع اقسام: قسم، حلف۔ قَسَمًا: میں قسم کھاتا ہوں۔ قَسَمًا ب: میں کی قسم کھاتا ہوں۔ قَسَمات و قَسِمَات: (چہرے کے) خدوخال۔ قَسَام و قَسَامَة: حسن، حسن و جمال، خوش پوشی۔ قَسِیم جمع قُسَمَاء و اَقْسِمَاء: حصہ دار، شریک، شریک کار، سانجھی، ساجھی، شرکت کرنے والا (جمع اَقْسِمَاء) حصہ، ہمزاد، نقل، مثنی تصویر (Counterpart) قسیمة جمع قَسَائِم: کوپن (Coupon)، رسید تَقَاسِیم: ساخت، کاٹھی، طول و عرض وغیرہ (انسانی جسم کا) ایک کی نغمہ سرائی قَاسِم: قاسم، نسب نما۔ مقسوم علیہ: مقسوم علیہ (ریاضی) مُقَاسِم: حصہ دار، شریک، سانجھی، شرکت کرنے والا۔ قُسَنْطِیْنَة: شمال مشرقی الجزائر کے ایک شہر کا نام۔

قسن: اَقْسَنَ الرجُلُ: سخت ہاتھوں والا ہونا۔ اِقْسَأَنَّ اِقْسِئنانًا و قُسَأْنِیْنَةً العودُ: لکڑی کا خشک اور سخت ہونا۔ الرجُلُ: مرد کا بوڑھا ہونا اور خشک ہونا۔ فی العمل: کو کر گزرنا۔ اللیلُ: رات کا سخت تاریک ہونا۔ المُقْسَئِنُّ: جوانی کی انتہا اور بڑھاپے کی ابتدا میں ہونے والا۔

قسو: ۱۔ قَسَا ـُ قَسْوًا و قَسْوَةً و قَسَاوَةً و قَسَاءَةً: سخت و درشت ہونا صفت قَاسٍ ج قُسَاةٌ۔ اللیلُ: رات تاریک ہونا۔ قَسّٰی تَقْسِیَةً و اَقْسٰی اِقْسَاءً الشیئَ: کو سخت و درشت کرنا۔ قَاسٰی مُقَاسَاةً الالمَ: تکلیف برداشت کرنا۔ اَرْضٌ قَاسِیَةٌ: بنجر زمین جس میں کچھ نہ اگے۔ لَیْلَةٌ قَاسِیَةٌ: بہت تاریک رات۔ القَسِیُّ ج قِسْیَانٌ: سخت، کہا جاتا ہے۔ عَشِیَّةٌ قَسِیَّةٌ: ٹھنڈی شام، یومٌ اَو عَامٌ قَسِیٌّ: سخت دن یا سخت سال (گرمی، سردی یا قحط کی وجہ سے)۔ سِرْنَا سَیْرًا قَسِیًّا: ہم تیز چال چلے، کہا جاتا ہے۔ هُوَ اَقْسٰی مِنَ الصَّخرِ: وہ پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ المَقْسَاةُ: جو سخت بنا دے کہا جاتا ہے۔ اَلذَّنْبُ مَقْسَاةٌ لِلْقَلْبِ: گناہ دل کو سخت کرنے کا سبب ہے۔ گناہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔

۲۔ قَسَا ـُ قَسْوًا و قَسْوَةً و قَسَاوَةً و قَسَائَةً الدرهمُ: درہم کھوٹا ہونا صفت قَسِیٌّ۔ القَسِیُّ من الدراهم ج قِسْیَانٌ: کھوٹا درہم۔

○ قَسْو: سختی، بے رحمی، سنگدلی، تشدد، سخت گیری، کرختگی، قَسْوَة: بمعنی بالا۔ قَسَاوَة: ایضاً قَسِی: سخت، ٹھوس، مضبوط۔ اَقْسٰی: زیادہ سخت، زیادہ بے رحم، زیادہ سنگدل، زیادہ سفاک، زیادہ ظالم، زیادہ وحشی، زیادہ مشکل۔ مُقَاسَاة: مصیبت اٹھانا، جھیلنا، تکلیف اٹھانا، گوارا کرنا، بھگتنا، برداشت کرنا، سہنا۔ قَاسٍ جمع قُسَاة: سخت، شدید، سنگدل، بے رحم، ظالم، بے درد، بے حس۔

قشّ: ۱۔ قَشَّ ـُ قُشُوشًا: لاغری کے بعد تنومند ہونا۔ فلانٌ: لاغری کی چال چلنا۔ من مرضه: مرض سے صحت یاب ہونا۔ اَقَشَّ من المرض: مرض سے صحت یاب ہونا۔ القِشَّةُ: کولتار میں استعمال کے بعد

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پھینکا ہوا چیتھڑا۔

۲۔ قَشَّ ـِ قَشًّا النباتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ ـــ الثوبُ الرطبُ وغیرہ عند العامّة: تر کپڑے وغیرہ کا تھوڑے خشک ہونے لگنا۔ قَشَّشَ الکرسی عند المحدثین: کرسی کو بننا۔ اَقَشَّ ت الارضُ: زمین میں زیادہ خشکی ہونا۔ الـقَـشُّ واحد الـقَشَّة: چھوٹی اور باریک خشک نباتات، نرکل بید، بانس وغیرہ کے چھلکوں کے باریک تنکے جن سے کرسیاں بنی جاتی ہیں۔ الـمَقَشَّة بڑی بوتل جس کے گرد اور نیچے تنکوں سے بنا ہوا جال ہوتا ہے تا کہ وہ گرنے سے ٹوٹ نہ جائے۔

۳۔ قَشَّ ـُ قَشًّا الشیئَ: کو جمع کرنا۔ ـــ فلانٌ صدقہ کے ٹکڑے کھانا، ادھر ادھر سے کھانا۔ عوام کہتے ہیں: قَشَّتِ المَرأَةُ الدارَ: عورت نے گھر کو جھاڑو سے صاف کیا۔ قَشَّتِ الفتاةُ الطافی علی وجہ القدر: لڑکی نے ڈوئی سے جھاگ نکال دی قَشَّشَ: ادھر ادھر سے کھانا۔ ـــ الارض (ز): کے کانٹے اٹھا کر جگہ صاف کر دینا۔ تَقَشَّشَ واقْتَشَّ ما وجد: سب کچھ کھالینا۔ القَشُّ: مص گھر وغیرہ کا کوڑا کرکٹ، بڑا ڈول، ردی قسم کی کھجور۔ القُشَاش والقُشَاشی والقِشِّیش: پڑی ہوئی جو چیز اٹھائی جائے۔ القَشَّاش: پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھانے والا۔ القَشَّانُ والقَشُّوش: جو معمولی چیز کو اٹھا کر کھالے۔ المِقَشَّة جھاڑو۔

۴۔ قَشَّ ـِ قَشًّا الشیئَ: ہاتھ سے رگڑنا۔ القَشِیشُ: سانپ کی کھال کی آواز۔

۵۔ قَشَّ ـِ قَشًّا واَقَشَّ القومُ چلا جانا۔ اِنْقَشَّ القومُ چلا جانا، جدا جدا ہونا۔

۶۔ قَشَّشَ ہٗ بکلامہ کو بدکلامی سے تکلیف پہنچانا۔

۷۔ القِشَّةُ (ح): بندریا، بندریا کا مادہ بچہ۔ (ح) گبریلا کی مانند ایک کیڑا، چھوٹے جسم کی بچی۔

۸۔ قَشْقَشَ ہٗ من الجَرَب او الجدری: کو خارش یا چیچک سے صحت یاب کرنا۔ تَقَشْقَشَ: خارش یا چیچک سے تندرست ہو جانا۔ القَشْقَشَة (مص): گوشت بھوننے کی آواز۔

قشب ا۔ قَشَبَ ـِ قَشْبًا فلانًا السمَّ: کو زہر پلانا۔ ـــ ہٗ الدخانُ: دھوئیں کا نتھنوں کو بھر دینا، کہا جاتا ہے قَشَبَنِی رِیحُہٗ: اس کی بو نے مجھے تکلیف دی۔ ـــ ہٗ المالُ: کی عقل زائل کرنا۔ ـــ الشیئَ: کو خراب کرنا۔ ـــ لہٗ: کو زہر پلانا۔ ـــ الطعامَ بالسمّ: کھانے میں زہر ملانا۔ قَشَّبَ الطعامَ بالسمّ: کھانے میں زہر ملانا۔ ـــ تِ الریحُ فلانًا: کو ہوا کا تکلیف دینا۔

القِشْبُ ج اَقْشَابٌ: زہر۔ القَشَبُ ج اَقْشَابٌ: زہر۔ المُقَشَّبُ: غیر خالص حَسَبٌ مُقَشَّبٌ ورَجُلٌ مُقَشَّبُ الحَسَب: غیر خالص حسب، مرد جس کا حسب خالص نہ ہو۔

۲۔ قَشَبَ ـِ قَشْبًا السیفَ: تلوار صیقل کرنا۔ قَشُبَ ـُ قَشَابَةً الشیئُ: صاف ہونا۔ تَقَشَّبَ السیفُ: تلوار کا زنگ خوردہ ہونا۔ القِشْبُ ج اَقْشَابٌ: زنگ۔ القَشِبُ: نیا پرانا۔ سَیْفٌ قَشِبٌ: صیقل شدہ یا زنگ خوردہ تلوار۔ القَشِیبُ ج قُشُبٌ وقُشْبٌ: نیا، صاف ستھرا، سفید۔ سَیْفٌ قَشِیبٌ: صیقل شدہ تلوار، زنگ آلود تلوار۔ القُشْبَانِیَّةُ پرانی چادر۔

۳۔ قَشَبَ ـِ قَشْبًا علیہ: پر بہتان لگانا ـــ الرجلَ: کو عار دلانا، پر عیب لگانا، سے بری بات کہنا۔ ـــ الرجلُ: نیک نامی یا بدنامی کمانا ـــ فلانًا بسوءٍ: کو برائی سے ملوث کرنا۔ ـــ ہٗ بشرٍّ: کو برائی سے یاد کرنا۔ قَشَّبَ الشیئَ: کو میلا کچیلا کرنا۔ فلانًا بسوءٍ: کو برائی سے ملوث کرنا۔ و تَقَشَّبَ ت یدُہٗ او شفتُہٗ (طب): کے ہاتھ یا ہونٹ کو زہر لگنا (سریانیہ)۔ اِقْتَشَبَ: نیک نامی یا بدنامی کمانا اِسْتَقْشَبَ ہٗ: کو گندہ سمجھنا۔ القَاشِبُ (فا): کمزور نفس والا۔ واقعی عیوب بیان کرنے والا القَشْبُ: گندہ۔ القِشْبُ ج اَقْشَابٌ: نفس۔ ـــ من الطعام: کھانے کا ردی حصہ، کہا جاتا ہے رَجُلٌ قِشْبٌ خِشْبٌ: بے خیر آدمی۔ القَشْبُ: شدید سردی والی ہوا کی وجہ سے ہاتھوں اور ہونٹوں کا سخت ہونا اور پھٹ جانا۔ القِشْبَةُ: بے خیر خسیس آدمی۔

۴۔ القِشْبُ ج اَقْشَابٌ: سخت خشک۔

۵۔ قَشْبَرَ: ایندھن کی ردی لکڑیاں یا لکڑیوں کا چورہ جمع کرنا (عامیہ)۔

قشد: قَشَدَ ـُ قَشْدًا ہٗ: کو برہنہ کرنا، کھولنا القِشْدَة: چنا گھیں (ن) ایک بہت دودھ والا پودا۔ القُشَادَة: گھی کا تلچھٹ۔

○ قَشٌّ: بھوسہ، تنکا، گھاس پھوس۔ خُمْسی القش چپ کا ئی۔ قَشَّةٌ ایک تنکا۔ قَشَّةُ نقاب: ماچس۔ دیا سلائی۔ قَشِیش: گندگی، میلا، غلاظت، کوڑا کرکٹ، ردی چیز، فضلہ، ردی، ردی ٹکڑا، پرزہ وغیرہ۔ مِقَشَّة: جھاڑو، جاروب۔ قِشْب جمع اَقْشَاب: زہر۔ قَشِیب جمع قُشُب: نیا، صاف، پالش کیا ہوا، اجلا کیا ہوا، چمکایا ہوا، صیقل کیا ہوا۔

○ قَشَدَ ـــ قَشْدًا بالائی، جھاگ یا پھین اتارنا ... بالائی

قشر ا۔ قَشَرَ ـِ قَشْرًا و قَشَّرَ ہٗ: کی کھال یا چھال اتارنا۔ قَشِرَ ـَ قَشَرًا: موٹی کھال والا ہونا۔ تَقَشَّرَ و اِنْقَشَرَ: چھل جانا۔ اِقْتَشَرَ الرجلُ: ننگا ہونا صفت۔ مُقْتَشِرٌ۔ القاشِرَةُ: قاشر کی مونث: پہلا زخم جو کھال کو پھاڑ دے، عورت جو اپنے چہرہ کو مل مل کر اس کا رنگ صاف کرے۔ القاشُورُ والقاشُورَةُ من الاعوام: قحط قحط کا سال۔ سَنَةٌ قَاشُورَةٌ وقَاشُورٌ: قحط کا سال۔ القِشْرُ ج قُشُورٌ: چھلکا، لباس، درخت کے تنے اور ٹہنیوں کا سطحی اور خارجی حصہ جو لکڑی کا احاطہ کئے ہو بعض درختوں کے چھلکے بہت مفید مواد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ـ و القِشْرُ (ح): بالشت کے برابر مچھلی۔ القِشْرانُ ہڈی کے دونوں پر۔ القَشِرُ و القَشِیرُ: بہت چھلکے والا، کہا جاتا ہے۔ تَمْرٌ قَشِرٌ و قَشِیرٌ: یعنی بہت چھلکے والی کھجور۔ القُشْرَةُ و القَشَرَةُ و القُشُرَةُ: بارش جو سطح زمین کو صاف کر دے۔ القِشْرَةُ: چھلکا مثلاً قِشْرَةُ البَیْضَةِ انڈے کا چھلکا۔ القُشَارُ سانپ کی کھال۔ القُشَارَةُ: اتارا ہوا چمڑا یا چھال۔ الاَقْشَرُ: چھلکا اتارا ہوا، گرمی کی وجہ سے چھلی ہوئی ناک والا، سخت سرخی والا۔ ابرص۔ ـــ من الارض: سرخ سفید زمین۔ شَجَرَةٌ قَشْرَاءُ: کہیں کہیں سے چھلا ہوا درخت۔ حَیَّةٌ قَشْرَاءُ: سانپ جس نے کینچلی اتار دی ہو القَشُورُ: چہرہ کو صاف کرنے والی دوا۔ المُقَشَّرُ (مفع) کہا جاتا ہے جاء بالجواب المقشر اس نے واضح جواب دیا اور کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ مُقَشَّرٌ ننگا مرد۔ المَقْشُورَةُ: چھلکا اتاری ہوئی گندم سے بنایا جانے والا کھانا۔ القِشْرِیَّاتُ (ح) مختلف جانور جو سب کے سب یا اکثر آبی ہوتے ہیں قشری (خول دار)

۲۔ قَشَرَ ـُ قَشْرًا وقَشَّرَ القومَ: لوگوں کے پاس بدشگونی لانا۔ القاشُورُ: منحوس۔ القُشْرَة: منحوس۔

۳۔ القاشُورُ والقاشِرُ من الخیل: گھوڑ دوڑ کا آخری گھوڑا۔ الاَقْشَرُ: بہت سوال کرنے والا۔ المِقْشَرُ: سوال میں اصرار کرنے والا۔

○ قِشْر جمع قُشُور: لفافہ، خول، کھپرا، چھلکا، پوست، چھال، پپڑی، کھال، کھرنڈ، سر کی خشکی، بفا، بھوسی، فلس، سانپ کی کینچلی، جمع قشور: کوڑا کرکٹ، فضلہ، معمولی چیزیں، سخت چیزیں، تکلفات، بفا، قشر الراس: بفا۔ قِشْرَة: (پھل کا) چھلکا، (انڈے، اخروٹ کا) خول، چھال، کھال، پپڑی، کھرنڈ، بھوسی، فلس، سانپ کی کینچلی، قِشْرِی چھلکے کا، خول کا، پوست کا، فلس کا، پپڑی دار، کھردرا، کھپرے کے مشابہ، فلس کے مانند،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خول دار، قشری۔ الحیوانات القِشْرِیَّة: خول دار (یا قشری) جانور، تقشیر چھلکے اتارنا، تراشنا، کاٹنا، کترنا، چھیلنا، خول کے اندر سے، بیج یا موتی نکالنا، چھال، چھیلنا، کھال، اتارنا، پرت اتارنا، مونڈنا، کھرچنا، بھوسی صاف کرنا، مقشر کرنا۔

قشط: قَشَطَ ـِ قَشْطًا ہٗ: کو لاٹھی سے مارنا۔

۲۔ قشطَ ـِ قَشْطًا عنه بکذا: کو سے ننگا کرنا۔ عوام کہتے ہیں۔ قَشَطَ الشَیئُ: چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور قَشَطَ الخاتَمُ مِنَ الخِنْصَر: چھنگلی انگلی سے انگوٹھی گرگئی۔ قَشَّطَ ہُ الشیئَ: سے کوز بردستی چھین لینا صفت مُقَشِّطٌ (عامیہ)۔ تَقَشَّطَ و انْقَشَطَ: ننگا ہونا۔ ـت السماءُ: صاف بے ابر ہونا۔ القَشْطَة: بالائی (عامیہ)۔ القِشاط: (ایک لغت میں کِشاطٌ ہے) چمڑے کا تسمہ جس سے گھوڑے کے تنگ کی ایک طرف کو دوسرے سے باندھا جاتا ہے چمڑے یا کپڑے کا جیو، کارتوس کی پٹی، پہیہ چلانے کی پٹی۔ القشاطُ: بہت لوٹنے والا۔ المِقشط ج مَقاشِط: چھال یا کھال اتارنے کا آلہ۔ المِقْشَطَةُ ۔ عند العقادین: ریشمی دھاگے صاف کرنے کا آلہ۔

◌ قِشْطة و قَشْطَة: بالائی، ملائی، شریفہ (پھل)، ایک گودے دار میٹھا پھل جس کا چھلکا پرت دار ہوتا ہے۔ اس پھل کا درخت یا جھاڑی Sweetsop۔ قُشاط جمع قشاطات: گتا، قاش، ٹکڑا، مہرہ (مہرہ بازی، نرد بازی میں)۔ مِقْشَط جمع مقاشِط: ربڑ (تحریر مٹانے کا) مٹانے کا چاقو مِقْشَطة: جمع مقاشط: چھیل کر، پیس کر، صیقل کرکے یا ٹھپا لگا کر تیار کرنے والی مشین۔

قشع: ۱۔ قَشَعَ ـَ قَشْعًا القومَ: کو متفرق کرنا۔ ـت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادلوں کو کھول دینا۔ اَقْشَعَ القومُ: منتشر ہونا، متفرق ہونا۔ القومُ عن الماء او المکان: سے ہٹ جانا، ـت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادلوں کو کھول دینا۔ السحابُ: بادل کھل جانا، چلے جانا عوام قَشَعَ بمعنی دیکھنا استعمال کرتے ہیں۔ تَقَشَّعَ القومُ: متفرق ہونا۔ ـــ السحابُ: بادل کھل جانا چلے جانا۔ اِنْقَشَعَ القومُ عن اماکنهم: سے دور ہونا، علیحدہ ہونا۔ ـــ السحابُ: بادل کھل جانا چلے جانا۔ ـــ اللیلُ: رات ختم ہونا۔ ـــ الهمُّ من القلب: دل سے غم کا زائل ہونا۔ القَشْعُ: کھل جانے اور جانے والا بادل۔ القَشْعُ ج قِشَع: بڑھاپے کی وجہ سے ڈھیلے گوشت والا۔ خشک شدہ مٹی کا ٹکڑا۔ ـــ والقِشْع: حمام کا کوڑا کرکٹ۔ القَشْعَةُ ج قِشاعٌ: قَشَعَ کا اسم مرہ۔ خشک شدہ مٹی کا ایک ٹکڑا، بادشمالی، بڑھاپے کی وجہ سے ڈھیلے گوشت والی بڑھیا۔ ـــ والقِشْعَةُ ج قِشَع: بادل کا ٹکڑا جو کھلنے کے بعد باقی رہ جائے۔ ـــ ـشاعَة: رینٹ۔ القَشِیْعُ من الکلاء: متفرق گھاس۔

۲۔ قَشِعَ ـــ قَشْعًا الشیئُ: خشک ہونا۔ القَشْعُ ج قُشُوع: پرانا پوستین چمڑے کا خیمہ، ـــ ج قِشَع: خشک کھال، زنبیل، پرانی مشک۔ القَشِعُ: خشک۔ القَشْعَةُ ج قِشاع: پرانے پوستین کا ٹکڑا۔ ـــ والقِشْعَةُ ج قِشَع: خشک کھال کا ٹکڑا۔ القِشاعُ: پرانا ٹکڑا، رقعہ، کہا جاتا ہے ماعلیه قِشاعٌ: اس پر بوسیدہ کپڑا بھی نہیں ہے۔

۳۔ القَشِع ج قُشُوع: بے وقوف، شترمرغ کا پر۔ ـ ج قِشَع (ح): زر بجو۔ القَشِع: غیر مستقل مزاج آدمی۔ اَرَاکَةٌ قَشِعَةٌ: گنجان بہت پتوں والا پیلو کا درخت شَاةٌ قَشِعَةٌ: دبلی پتلی بکری۔ القَشاعُ: مادہ بجو کی آواز کہا جاتا ہے هو اقشع منه: یعنی وہ اس سے اشرف ہے۔

۴۔ اِقْشَعَرَّ جلدُهُ: کانپنا، سمٹنا، کھردرا ہونا، رنگ بدلا ہوا ہونا صفت مُقْشَعِرٌّ ج مُقْشَعِرُّوْنَ و قَشَاعِرُ ـــ الشعرُ: خوف یا سردی کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہونا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہونا۔ ـــ ت السنةُ: خشک سالی ہونا۔ قحط والا ہونا۔ القُشَاعِرُ: چھونے میں سخت۔ القُشَعْرِیْرَةُ: اِقْشَعَرَّ سے اسم: کپکپی۔ المُتَقَشْعِر بمعنی مُقْشَعِرٌّ

۵۔ القَشْعَمُ ج قَشَاعِمُ و قَشَاعِیْمُ: عمر رسیدہ (مرد یا عورت یا گدھ) موٹا عمر رسیدہ، (ہر چیز پر استعمال ہو جاتا ہے)۔ ـــ (ح) شیر ـــ ام قشعم: لڑائی، مصیبت (ح) بجو، موت۔ القِشْعَام و القَشْعَمَانُ والقُشْعُمَانُ (ح): بڑا زرگدھ۔ عمر رسیدہ مرد یا گدھ۔ القُشْعَامَةُ: جال۔ القُشْعُوْمُ: چھوٹے جسم والا، چیچڑی۔

◌ قَشَعَ ـ قَشْعًا ہ/ ہ: کو تتر بتر کرنا، منتشر کرنا، رگیدنا، کا پیچھا کرکے نکال دینا ـــ ہ: کو زائل کرنا، دور کرنا، دفع کرنا، اَقْشَعَ: (بمعنی بالا نیز) ہ: مجمع کو منتشر کرنا۔ ـ ہ: (بادل، تاریکی) کو اٹھا لیجانا، منتشر کرنا۔ تَقَشَّعَ واِنْقَشَعَ: بکھر جانا، تتر بتر ہو جانا، منتشر ہو جانا، رگیدا جانا، پیچھا کر کے نکال دیا جانا (مجمع کا) منتشر ہونا (بادلوں، تاریکی کا) اٹھ جانا، منتشر ہو جانا، چھٹ جانا۔ اِقْشَعَرَّ: (سردی یا خوف سے) لرزنا، کانپنا، کپکپانا، تھرتھرانا، ہلنا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، رعشہ طاری ہونا۔ شیٔ تقشعر منه الجلود (او الابدان): رونگٹے کھڑے کرنے والی چیز، دہشت انگیز چیز، بھوت پریت جیسی چیز۔ قُشَعْرِیرَة: کپکپی، لرزہ، تھرتھری، کپکپاہٹ، لہر، تھراہٹ، لرزہ براندام ہونا، تپ لرزہ۔

◌ ام قشعم: چرخ، لکڑبگر، مصیبت۔

قشف: قَشِفَ ـَ قَشَفًا و قَشُفَ ـُ قَشَافَةً: بدحال ہونا، پھٹے پرانے حال والا ہونا، تنگ گزران ہونا، گندہ جسم ہونا صفت۔ قَشْفٌ و قَشِفٌ و قَشَفٌ۔ قَشَّفَ اللّٰهُ عیشَهُ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی زندگی تنگ کر دینا۔ تَقَشَّفَ: بدحال ہونا، تنگ گزران ہونا۔ ـــ فی لباسه: پیوند لگے ہوئے اور میلے کچیلے کپڑے پہننا۔ عَامٌ اَقْشَفُ: سخت سال۔

◌ قَشَفَ: ہاتھوں کا پھٹنا، کھردرا اور پھٹے ہوئے جسم والا ہو جانا تَقَشَّفَ: زبوں حال ہونا، تارک الدنیا ہونا، جسمانی خواہشات کو مارنا، پھٹی ہوئی جلد والا ہونا، کھردری اور پھٹے ہوئی جلد والا ہونا۔ قِشْفَة جمع قِشَف: روئی کا چھلکا۔ تَقَشُّف: پرہیز گاری، تقوی، زہد، رہبانیت، نفس کشی، سادہ اور قدیم طرز زندگی، مُتَقَشِّف: زاہدانہ، درویشانہ، راہبانہ، تارک لذات، زاہد، عابد، فقیر، سنیاسی، کھردرے اور پھٹے ہوئے (ہاتھ)۔ المُتَقَشِّفَة: سنیاسی لوگ، زاہد لوگ۔ قَشْقَشَ ہ من: کو (خارش، چیچک) سے صحتیاب کرنا۔ ـ ہ: کو جھاڑو کے ذریعے ہٹانا، دور کرنا۔

قَشَل: القِشْلَةُ: لشکر کے اترنے کی جگہ (ایطالیہ، ترکیہ)۔

◌ قَشِلَ ـ قَشَلًا: غریب ہونا، نادار ہونا، بے مایہ ہونا، بے وسیلہ ہونا۔ قَشْلَة جمع: قِشَل (فوجی) بیرکس، ہسپتال۔ قُشْلاق جمع قُشْلاقات: (فوجی) بیرکیں۔

قشم: ۱۔ قَشَمَ ـُ قَشْمًا الطعامَ: کو زیادہ کھانا، مزیدار خوراک کھانا۔ اِقْتَشَمَ ہ: کو ادھر ادھر سے کھانا۔ القَشْمُ ج قُشُوْمٌ: گوشت جبکہ پک کر سرخ ہو جائے۔ القِشْمُ ج قُشُوْم بمعنی القَشْمُ: پک کر سرخ ہوجانے والا گوشت، چربی۔ القُشَام و القُشَامَةُ: دسترخوان پر بچا ہوا بے کار حصہ۔ القَشِیْمُ ج قُشُمٌ: خشک سبزی۔ المَقْشَمُ: قَشَمَ کا ظرف مکان کہا جاتا ہے مااصابت الابلُ مَقْشَمًا: اونٹوں نے کوئی چرنے کی چیز نہیں پائی۔

۲۔ قَشَمَ ـِ قَشْمًا الرجُلُ فی بیته: میں داخل ہونا۔ القَشَمُ والقِشْمُ ج قُشُوْمٌ: زمین میں پانی بہنے کی نالی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۳۔ القِشْمُ ج قُشُوْمٌ: طبیعت، جسم، حال، ہیئت، اصل۔ القَشِمُ موت۔

۴۔ القَشْمَرُ: پستہ قد، موٹا گھٹے ہوئے بدن والا۔

○ قِشْمِش: یونانی کشمش، منقی، مویز منقّٰی داغ۔

قشو: ۱۔ قَشَا یَقْشُوْ قَشْوًا و قَشَّی العودَ: لکڑی چھیلنا۔۔۔ الوجه: چہرہ پونچھنا۔ کہا جاتا ہے: قَشَّاهُ عن حاجته: یعنی اس کو اس کی حاجت سے باز رکھنا۔ تَقَشَّی الشیئُ: چھل جانا۔ القَشْوَانُ من الرجال: مونث قَشْوَانَةٌ: کمزور۔ المَقْشُوُّ والمُقَشَّی: چھلا ہوا۔

۲۔ اَقْشَی اِقْشَاءً مالداری کے بعد محتاج ہونا۔

۳۔ القَاشِیُ (فا) کھوٹا پیسہ۔ القُشَاءُ تھوک۔ القَشْوَةُ ج قِشَاءٌ و قَشَوَاتٌ کھجور کے پتوں کی ٹوکری جس میں عورتیں روئی یا عطر وغیرہ رکھتی ہیں۔ القِسِیُّ من الدراهم کھوٹا درہم۔

○ قاشانی: چینی مٹی، چینی کے برتن۔

قص: قَصَّ ـُ قَصًّا الشَعَرَ و نحوَهُ: قینچی سے بال وغیرہ کاٹنا۔۔۔ النسَّاجُ الثوبَ: کپڑے کے چھور (پھندنے) کاٹنا۔ ـ ہٗ: کے کان کے اطراف کو کاٹنا، کہا جاتا ہے مایقُصُّ فی یده شیئٌ: کوئی چیز اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہتی۔ قَصَّصَ الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اِنْقَصَّ: کٹ جانا۔ القَاصُّ: وہ شخص جو اونٹ وغیرہ کے بال اتارنے کا پیشہ کرتا ہو۔ القَصُّ ج قِصَاصٌ (مص) سینہ یا اس کی ہڈی۔ القَصَصُ ج قِصَاصٌ: سینہ یا اس کی ہڈی۔ قَصَصُ الشَّاةِ: بھیڑ کا کٹا ہوا اون۔ القُصَّةُ ج قُصَصٌ و قِصَاصٌ: پیشانی کے بال، بالوں کا گچھا۔ القَصَّةُ ج قِصَاصٌ: قَصَّ سے اسم مرہ۔ القُصَاصُ: سر پر قینچی چلنے کی جگہ۔ قُصَاصُ الشعر بتثلیث القاف: بال نکلنے کی منتہا۔ القَصِیْصُ: واحد قَصِیْصَةٌ ج قَصَائِصُ: سینہ پر بال نکلنے کی جگہ۔ القَصِیْصَةُ: جماعت جو ایک جگہ پر جمع ہو، کہا جاتا ہے۔ ترکتهم قصیصة واحدة: یعنی میں نے انہیں ایک جگہ اکٹھے ہوئے چھوڑا۔ المِقَصُّ ج مَقَاصٌّ: قینچی۔ المُقَصَّصُ (مفع): پیشانی کے بالوں والا۔ رجل مُقَصَّصٌ: بڑے سینہ والا۔

۲۔ قَصَّ ـُ قَصًّا و اَقَصَّتِ الشاةُ: کا حمل ظاہر ہونا صفت مُقِصٌّ ج مَقَاصٌّ

۳۔ قَصَّ ـُ قَصَصًا علیه الخبرَ: سے کو بیان کرنا۔ قَصًّا وقَصَصًا اثَرَهُ: کی آہستہ آہستہ پیروی کرنا۔ تَقَصَّصَ الکلامَ: کو یاد کرنا۔۔۔ اَثَرَهُ: کی پیروی کرنا۔ اِقْتَصَّ اَثَرَهُ: کی تابعداری کرنا۔۔۔ الحدیثَ: کو روایت کرنا۔ القَاصُّ (فا): قصہ گو خطیب۔ القِصَّةُ ج قِصَصٌ و الاُقْصُوْصَةُ ج اَقَاصِیْصُ بات، واقعہ، حالت، کہانی۔ القَصَّاصُ: اجرت لے کر مجمع میں قصہ بیان کرنے والا۔ القَصِیْصَةُ: اونٹ کہ جس سے قافلہ کی پیروی کی جائے۔ القصة۔ المَقَصّ: نشان۔ اثر

۴۔ قَصَّ ـُ قَصًّا الموتُ فلانًا: قریب الموت ہونا کہا جاتا ہے، ضَرَبَهُ حَتّٰی قَصَّهُ علی الموت او اَقَصَّهُ من الموت: اس کو اتنا مارا کہ موت کے قریب پہنچا دیا۔ قَاصَّ قِصَاصًا و مُقَاصَاةً ہٗ: سے بدلہ لینا، قصاص لینا۔ اس سے وہی کچھ کرنا جو اس نے کیا تھا۔ الرجُل بما کان له قبله: کو بدلہ میں روک لینا۔ اَقَصَّ الموتُ فلاناً کو موت کا قریب کر لینا۔ کہا جاتا ہے ضربه حتی اقصه علی الموت. اس کو مارا یہاں تک کہ اسے موت کے قریب پہنچا دیا۔۔۔ الامیرُ فلانًا من فلان: کا سے بدلہ لے لینا۔۔۔ الرجُلُ من نفسه: خود کو اپنے آپ سے بدلہ لینے دینا۔ تقَاصَّ القومُ: ایک کا دوسرے سے بدلہ لینا۔ اِقْتَصَّ من فلان: سے قصاص لینا۔ اِسْتَقَصَّ ہٗ: کو دشمن سے قصاص یا بدلہ لینے کو کہنا۔ القِصَاصُ: گناہ کی سزا، بدلہ۔ فاعل سے وہی کیا جانا جو اس نے کیا ہو۔

۵۔ القَصَّةُ ج قِصَاصٌ: چونا۔ القَصَاصُ واحد قَصَاصَةُ (ن): ایک قسم کا پودا جسے شہد کی مکھی چاٹتی ہے۔ القَصِیْصُ واحد قَصِیْصَةٌ ج قَصَائِصُ (ن): ایک قسم کی نباتات جو سانپ کی چھتری کی جڑوں میں ہوتی ہے اور اس کے پانی سے سر دھوتے ہیں۔ القَصِیْصَةُ: چھوٹا اونٹ کہ جس پر کھانا اور اثاثہ لادیں۔

۶۔ قَصْقَصَ الشیئَ: کو توڑنا۔۔۔ بالجرو: کتے کے پلے کو بلانا۔ تَقَصْقَصَ اَثَرَهُ: کی پیروی کرنا۔۔۔ کلامَهُ: کو یاد کرنا۔ حیَّةٌ قَصْقَاص: خبیث سانپ۔ اسدٌ او رجُلٌ قصقاصٌ: موٹا اور پستہ قد شیر یا آدمی۔ حیَّةٌ قُصَاقِص: خبیث سانپ۔ اسد او رجل قُصَاقِصُ ج قَصَاقِصُ و قُصَاقِصَاتٌ و قُصْقُصٌ و قُصْقُصَةٌ: موٹے جسم والا یا پست قد، شیر یا مرد۔ القَصْقَصُ: سینہ میں بال اگنے کی جگہ، آواز۔

○ قَصَّ ـُ قَصًّا و قَصَصًا اثَرَهُ: کے نقش قدم پر جانا کے نشانات دیکھ کر چلنا۔۔۔ علی ہ: کو کچھ بتانا، کو کچھ کہنا، سے کچھ بیان سننا، کوئی کہانی کہنا۔ قاصصه: سے بدلہ لینا، انتقام لینا، کو سزا دینا، کے ساتھ حساب صاف کرنا۔ تَقَصَّصَ اثره: بمعنی قَصَّ اثرَه اِقْتَصَّ اثره: کے نقش قدم پر چلنا، نشانات دیکھ کر چلنا۔ اِقْتَصَّ ہ: کو صحیح صحیح بتانا، کو ہو بہو بیان کرنا۔۔۔ من: سے انتقام لینا، کو سزا دینا۔ قَصَّ: تراشے، کترنیں، ٹکڑے، ریزے، چھیلنیں، قاشیں، چیتھڑے، ردی ٹکڑے، پرزے، سینے کی ہڈی، قُصَّة جمع قُصَص و قِصَاص: پیشانی کے بال، سامنے کے بال، بالوں کی لٹ، کاکل، زلف۔ قِصَّة: کاٹنے کا انداز، تراش جمع قِصَص: کہانی، روایت، حکایت، داستان، سرگزشت، قصہ، قصة هذا الشیئ ان: معاملہ یوں ہے کہ اس بات کو یہ کہہ کر بہتر بیان کیا جا سکتا ہے کہ قَصَص: تراشے، کترنیں، ٹکڑے، ریزے، ردی ٹکڑے، چھیلنیں، قاشیں، چیتھڑے پرزے، کہانی، روایت، حکایت، داستان، قصہ، سرگزشت۔ قِصَصِی وقَصَصِی: حکایتی، افسانوی، رزمیہ شاعری سے متعلق۔ جمع قِصَصِیُون: کہانی بیان کرنے والا، قصہ گو، افسانہ نگار، ناول نگار، قرون وسطی کا رزمیہ نگار، داستان گو، رومان نگار، فرضی افسانے بنانے والا۔ الشِعر القصصی: رزمیہ شاعری۔ قُصاصة (اسم جمع قُصاص و قُصَاصَة) جمع قُصَاصات: تراشہ، اخبار کا تراشہ، ٹکڑا، کترن، چیتھڑا، کاغذ کا ٹکڑا، کاغذ کا پرزہ۔ قَصَّاص: مونڈنے والا، تراشنے والا، پتہ چلانے والا، کھوجی، افسانہ نگار، ناول نگار، رومان نگار۔ اُقْصُوصه جمع اَقَاصِیص: کہانی، حکایت، داستان، قصہ، ناول، افسانہ۔ مِقَص جمع مَقَاص: قینچی، (آٹوموبائل یا کوچ) کے سپرنگ۔ ابو مِقَص: مصنوعی بالوں کا کنٹوپ، کف گیر۔ قِصَاص: بدلہ، انتقام، سزا، تصفیہ حساب۔ مُقَاصَة: تصفیہ حساب، توازن، تطابق، پاسنگ، معاوضہ۔ غُرْفَة المقاصة: حساب گھر، مبادلہ گھر۔ مَقْصُوص جمع مُقَاصِیص: طرہ کاکل، خم زلف، بالوں کی الگ لٹ، زلف مصنوعی، کانوں پر ڈالی ہوئی بالوں کی لٹ۔ مقصوصة: کف گیر۔ قُصَاج جمع قصاجات: پلاس، سنی، موچنا، سنسی۔

قصب: ۱۔ قَصَبَ ـِ قَصْبًا ہٗ: کو کاٹنا۔۔۔ الشاةَ: بکری کے عضو کاٹنا۔ قَصَّبَ الزرعُ: ڈنٹھل والی ہونا۔۔۔ فلانًا: کے ہاتھوں کو گردن سے ملا کر باندھنا۔۔۔ الشَعَرَ: بالوں کو گھنگھریالے بنانا۔۔۔ البنّاءُ الحجرَ فی اصطلاح العامة: (ب) پر کھدائی کرنا اور اسے ہموار کرنا۔۔۔ ت المراۃُ شعرَها: بالوں کی زنکل کی طرح مینڈھیاں بنانا۔ اَقْصَبَ المکانُ: جگہ کا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نرکل والی ہونا۔ اِقْتَصَبَ الشيئَ کو اپنے لئے کاٹنا۔
القَاصِبُ (فا) ج قُصَّابٌ: قصائی، بانسری بجانے
والا۔ بادل، بہت گرجنے والا۔ القُصْبُ ج اَقْصَابٌ:
آنت (ع ا) چیھ۔ القَصَبُ واحد قَصَبَةٌ: نرکل،
بانس (قَصَبُ السُّکَّرِ: (ن) گنّا عام لوگ اسے
قَصَبُ المصّ: کہتے ہیں۔ (ع ا) ہاتھ پاؤں کی
ہڈیاں، گول اور لمبی جوف دار ہڈی، گودے والی ہڈی،
حلق کی نالی، آنسو بہنے کی جگہ، مستطیل جوہر (کہا جاتا
ہے اَحْرَزَ قَصَبَ السبقِ یعنی وہ غالب رہا، اس کی
اصل یوں ہے کہ میدان مسابقت میں ایک بانس گاڑ
دیا کرتے تھے جو شخص آگے بڑھ جاتا تھا وہ اسے اکھاڑ
لیتا تھا تا کہ غالب رہنے کی علامت ہو)، سونے
چاندی سے جڑاؤ کٹے ہوئے دھاگے۔ القَصَبَةُ
(القَصَبُ کا واحد) بالوں کا لپٹا ہوا گچھا۔ قَصَبَةُ
الاِصْبعِ انگلی کا سرا۔ قَصَبَةُ المَرِیّ: نرخرہ۔ قَصَبَةُ
الانْفِ ناک کا بانسہ۔ قَصَبَةُ الرِئةِ: سانس کی نالی۔
اَرْضٌ قَصِبَةٌ: بانسوں والی زمین۔ القِصَابَةُ: قصائی
کا پیشہ، بالوں کا لپٹا ہوا گچھا۔ القَصَّابُ: قصائی،
بانسری بجانے والا۔ القَصَّابَةُ ج قَصَّابٌ القصّاب
کا مونث، بانسری۔ القُصَّابَةُ ج قُصَّابٌ بالوں کا
لپٹا ہوا گچھا۔ القَصْبَاءُ واحد قَصْبَاءَةٌ: بہت سے
بانس، نرکل یا بانس اگنے کی جگہ۔ اَجَمَةٌ قَصْبَاءُ:
بہت نرکل یا بانسوں والی جھاڑی۔ القَصُوبُ من
الغنمِ بھیڑ جس کا اون اتار دیا جائے۔ القَصِیبَةُ
ج قَصَائِبُ: نرکل یا بانس کی پوری، بالوں کا گچھا۔
التَقْصِبَةُ والتِقْصِیبَةُ ج تَقَاصِبُ و تَقَاصِیبُ:
بالوں کا گچھا۔ المَقْصَبَةُ: بانس یا نرکل نکلنے کی جگہ۔
اَرْضٌ مِقْصَابٌ و مَقْصُبَةٌ: بہت زیادہ بانس یا نرکل
والی زمین۔ المُقَصَّبُ (مفع) من الثیاب تہہ
شدہ کپڑا۔ ثِیَابٌ مُقَصَّبَةٌ: سونے چاندی کی تاروں
کا کام کیا ہوا کپڑا۔ شَعَرٌ مُقَصَّبٌ: گھنگھریالے
بال۔ المُقْصِبُ (فا): سبقت لے جانے والا۔

۲۔ قَصَبَ ـِ قَصْبًا و قُصُوبًا البعیرُ: اونٹ کا پانی پینے
سے باز رہنا۔ ـــ الانسانَ و غیرہٗ: کو پانی پینے سے
باز رکھنا اور سیرابی سے پہلے روک دینا۔ اَقْصَبَ الراعی:
چرواہے کے اونٹوں کا پانی پینے سے باز رہنا۔
القَاصِبُ والقَصِیبُ من الابل: پانی سے رکنے
والا اونٹ، کہا جاتا ہے۔ بَعِیرٌ قَصِیبٌ و نَاقَةٌ
قَصِیبٌ پانی سے رکنے والا اونٹ اور پانی سے رکنے
والی اونٹنی۔

۳۔ قَصَبَ ـِ قَصْبًا و قُصُوبًا الرجُلَ: کو گالی دینا۔
قَصَّبَ ہ: کو گالی دینا۔ القَصَّابَةُ ج قَصَّابٌ لوگوں
کے عیوب بیان کرنے والا۔

۴۔ القَصَبُ: مروارید آبدار و تازہ، زبرجد آبدار و تازہ جو
یاقوت سے مرصع ہو۔ القَصَبَةُ: نیا کھدا ہوا کنواں،
شہر یا ملک کے شہروں میں سے بڑا شہر، گاؤں یا گاؤں
کا درمیان۔ ــ فی المساحة 40/1/6 مربع فٹ۔
القَصَبِیُّ ج القَصَبُ: السی کا باریک کپڑا۔
المُقَصِّبُ دودھ جس پر گاڑھا جھاگ ہو۔
ت قَصَّبَ ہ (ذبح کئے ہوئے جانور) کے گوشت کو کاٹ
کر ٹکڑے کرنا (کا) گوشت کاٹنا۔ قَصَّبَ ہ (بالوں
کو) گھنگھریالے بنانا، کسی چیز کو کمخواب یا زربفت بنانا،
پر سونے چاندی کے دھاگوں سے بیل بوٹے کاڑھنا۔
نقش و نگار بنانا، گلکاری کرنا، زردوزی کرنا۔ قَصَبٌ:
(اسم جمع) بید، گنا، نرسل، غلاتی گھاسوں کی ڈنڈی اور
ڈنٹھل، سونے چاندی کا دھاگا، سونے چاندی کی سوزن
کاری، زربفت، کمخواب، دیبا، قصب الذهب:
سونے کی کمخواب۔ قصب السکّر گنّا، القصب
الهندی بانس، احرز قصب السبق (و الغلب):
فتح حاصل کرنا، بڑی کامیابی حاصل کرنا، جیتنا۔ قَصَبَة
جمع قصبات بید، نرکل، پائپ، ٹیوب، نَا، پائپ ٹیوب،
قلم، نرخرا، سانس کی نالی، نباتات کی نالی، کنویں کی
نلی، بانسری جیسے ہوا باجہ، ایک لمبائی ناپنے کا پیمانہ، قلعہ،
بڑا شہر قصبة الرئة سانس لینے کی نالی، نرخرا، قصبة
المری: حلقوم، گلا، غذا کی نالی، قِصابَة: قصاب کا
پیشہ قُصَیبَة جنیٰ قصاب: قصائی، ناظر مساحت
ارضی۔ قُصّابَہ (نرکل کی) نلکی، مُقصَّب سونے
چاندی کے دھاگوں سے بیل بوٹے بنایا ہوا، نقش و نگار
بنایا ہوا، سوزن کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا، کمخوابی،
زری، کامدار، کمخواب، زربفت یا دیبا سے سنوارا ہوا۔

قصد ۱۔ قَصَدَ ـِ قَصْدًا الرجُلَ و لَهٗ و الیہ: کی طرف
رخ کرنا، پر توجہ کرنا۔ ــــ الیہ: پر اعتماد کرنا۔ ــــ
قَصْدَہٗ: کی طرف جانا کہا جاتا ہے اَقْصَدَنِیْ اِلَیْكَ
الاَمْـــرُ: کام یا معاملہ نے مجھے تیرے پاس آنے پر
اکسایا۔ تَقَصَّدَہٗ کا ارادہ کرنا۔ القَاصِدُ الرسولی
عـنـد تابعی الکنیسة الرومانیة وہ پادری جس کو
پاپائے روم رومن گرجا کے خدام کی طرف اپنا نائب بنا
کر بھیجے۔ القَصْدُ (مص) اعتماد، قصد، کہا جاتا
ہے: ھُوَ قَصْدُكَ: وہ تمہارے مقابل ہے۔ القَصَادَةُ
الرَّسُوْلِیَّةُ وہ جگہ جہاں بھیجا جانے والا نائب ہو۔
القَصِیْدُ لاٹھی۔ القَصِیْدَةُ ج قَصِیدٌ و قَصَائِدُ:
لاٹھی۔ المَقْصِدُ ج مَقَاصِدُ بجائے قصد، کہا جاتا
ہے۔ بَابُكَ مَقْصِدِیْ تمہارا دروازہ میرے لئے
جائے قصد ہے۔

۲۔ قَصَدَ ـِ قَصْدًا فی مشیہ: سیدھی چال چلنا۔ ـ فی
الامر: میں درمیانہ روی اختیار کرنا۔ ــ فی النفقة:
متوسط خرچ کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِقْصِدْ بِذَرْعِكَ یعنی
ٹھہرو، توقف کرو۔ اِقْتَصَدَ فی الامر میں میانہ
روی کرنا۔ ــ فی النفقة: متوسط خرچ کرنا۔ ــ فی
امرہ: میں مستقیم ہونا۔ القَاصِدُ (فا) ج قَوَاصِدُ:
نزدیک۔ ــ من السفر آسان اور قریب کا سفر۔
طَرِیْقٌ قَاصِدٌ: سیدھا راستہ۔ القَاصِدَةُ ج
قَوَاصِدُ القاصد کی مونث کہا جاتا ہے۔ بَیْنَنَا و بَیْنَ
الْمَاءِ لَیْلَةٌ قَاصِدَةٌ ہمارے اور پانی کے درمیان ایک
رات کی مسافت ہے جس میں نہ تھکاوٹ ہے نہ تاخیر۔
القَصْدُ (مص) راستہ کی استقامت، میانہ روی کہا
جاتا ہے۔ رَجُلٌ قَصْدٌ نہ تو بڑے ڈیل کا اور نہ ہی
دبلا پتلا مرد کہا جاتا ہے۔ طَرِیْقٌ قَصْدٌ سیدھا راستہ،
اور کہا جاتا ہے، اِنَّهٗ عَلٰی قَصْدٍ یعنی وہ ہدایت پر
ہے۔ عَلَی اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِیْلِ اللہ کے اوپر ایسے
راستہ کا بیان کرنا ہے جو سیدھا اور حق تک پہنچانے والا
ہو۔ رَجُلٌ مُقْصَدٌ و مُقْتَصِدٌ درمیانے جسم کا آدمی
نہ موٹا نہ دبلا۔

۳۔ قَصَدَ ـِ قَصْدًا الشیئَ کو توڑنا۔ ــ الشاعرُ:
قصائد بنانا۔ قَصُدَ ـُ قَصَادَةً البعیرُ: اونٹ کا موٹا
ہونا۔ قَصَّدَ الشیئَ کو توڑنا۔ ــ الشاعرُ: قصائد
بنانا ـ القَصَائِدَ: کو مہذب کرنا، درست کرنا۔ اَقْصَدَ
الشاعرُ: قصائد بنانا۔ تَقَصَّدَ و انْقَصَدَ الرمحُ:
نیزہ کا ٹوٹنا۔ رمحٌ قَصِدٌ و اَقْصَادٌ ٹوٹا ہوا نیزہ۔
القِصْدَةُ ج قِصَدٌ: توڑی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ القَصِیْدُ:
موٹا گودا، موٹا، موٹی جوان اونٹنی۔ ــ من الشِعْرِ تین
سے لے کر زائد شعروں کی نظم اور بقول بعض سولہ سے
لے کر زائد شعروں کی نظم، درست اور مہذب کی ہوئی
نظم۔ رُمْحٌ قَصِیْدٌ ٹوٹا ہوا نیزہ۔ القَصِیْدَةُ ج
قَصِیْدٌ و قَصَائِدُ: القصید کا واحد مذکر موٹا گودا۔ ــ
مــن الشِــعْــرِ: سات یا دس اشعار سے زائد نظم۔
القَصُوْدُ موٹا گودا۔

۴۔ قَصَدَ ـِ قَصْدًا فلانا علی الامر کو پر مجبور کرنا۔

۵۔ اَقْصَدَہٗ کو ٹھیک نشانہ پر نیزہ مارنا۔ ــ ہُ السهمُ کو
تیر کا لگنا اور موقع پر ہلاک کر دینا ــ ت الحیّةُ فلانًا:
سانپ کا کسی کو ڈس کر مار ڈالنا۔ تَقَصَّدَہٗ کسی کو موقع
پر مار ڈالنا۔ ــ الکلبُ و غیرہٗ مرنا۔ المُقْصَدُ
(مفع) جو شخص بیمار ہو اور فوراً مر جائے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۶ـ الْقَصَدُ بھوک، واحد قَصَدَةٌ: ہر خاردار درخت اگتے وقت۔ — من العوسج و نحوہ: عروسی بیل وغیرہ کی نرم و نازک ٹہنیاں۔ الْمُقَصَّدَةُ: اونٹوں کے کانوں میں پائی جانے والی علامت

۷ـ الْقَصْدِیرُ قلعی، رانگا، ٹین، اس کے ٹکڑے کو قصدیرۃ کہا جاتا ہے۔

قَصَدَ ـِ قَصْدًا ہ/ہ/الی: کے پاس سیدھا جانا، ناک کی سیدھ میں جانا۔ — ہ/الی: کو ملنے جانا۔ — ہ/الی: کسی جگہ جانا۔ — ہ/الی: کسی شخص کے پاس جانا۔ — ہ/الی: کا عازم ہونا، کا تعاقب کرنا، خواہاں ہونا۔ — ہ/الی: کیلئے سخت کوشش کرنا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، کو مدنظر رکھنا۔ — ہ/الی: کی کوشش کرنا، کا ارادہ کرنا۔ — ہ ب من: سے کچھ مطلب ہونا، مراد ہونا، کا معنی ہونا، سے کچھ کہنے کی کوشش کرنا۔ — فی: میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ — کفایت شعار ہونا، کم خرچ ہونا، کفایت شعاری سے کام لینا، بچت کرنا۔ قَصَّدَ قَصَدَہُ: کے پاس جانا، کا پیچھا کرنا، کے نقش قدم پر چلنا۔ أَقْصَدَہُ الی: کو کسی شخص کے پاس کسی جگہ جانے پر اُکسانا۔ —: قصائد کہنا یا لکھنا۔ تَقَصَّدَ: ٹوٹا ہوا ہونا، ٹوٹنا۔ — ہ: سے ناراض ہونا، پر غصے ہونا، جھنجھلانا۔ اِنْقَصَدَ: ٹوٹا ہوا ہونا، ٹوٹنا۔ اِقْتَصَدَ فی: میں یا پر درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ — بین: کے درمیان یا مابین درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ — بین: دو کے درمیان ثالثی کرنا، بطور ثالث ہونا۔ — فی: میں کفایت شعاری کرنا، کفایت شعار ہونا، دور اندیشی کرنا، کم خرچ ہونا، کفایت شعاری سے کام لینا۔ — ہ: روپیہ پیسہ بچا کر رکھنا۔ —: قصیدے کہنا۔ قَصْد: کوشش، ارادہ، مقصد، عزم، نصب العین، منزل مقصود، مطمح نظر، کفایت شعاری، بچت۔ قَصْدًا و عن قَصْد: دانستہ، جان بوجھ کر، ارادتاً، قصداً، عمداً، خاص مقصد سے، ارادہ سے، مطلب سے، سوچ بچار کر، دیدہ دانستہ۔ عن غیر قَصْدٍ: بلا ارادہ، غیر ارادی طور پر۔ حُسن القَصْد: نیک ارادہ۔ سوءُ القَصْد: برا ارادہ، بری نیت۔ ہو قَصْدُكَ (و قصدَكَ): وہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے مقابل ہے۔ قَصْدِی: قصداً کہا یا کیا ہوا، مقصود۔ قُصَادَ: کے سامنے، آگے، بالمقابل۔ قَصِید: آرزو کیا ہوا، تمنا کیا ہوا، مرغوب، خواہش کیا ہوا، مطلوب، ارادہ کیا ہوا، بے نقص (نظم وغیرہ) قصیدہ۔ بیتُ القصید: قصیدہ کی ضروری اور بڑی بیت یا بند (گیت کا) بول، اہم نقطہ، بڑا حصہ، روح، جوہر، مغز، لب لباب، نچوڑ، خلاصہ، درجہ کمال، عروج، نقطہ عروج، منتہائے کمال، صحیح بات، باقی باتوں میں نمایاں ترین۔ اَقْصَد: سیدھا تر، سیدھا ترین۔ سیِّءُ المقاصد: بدخواہ، بد باطن، بد اندیش، حاسد۔ اقتصاد: بچت، کفایت شعاری، کانٹ چھانٹ، تخفیف، کفایت، معاشیات۔ علم الاقتصاد و علم الاقتصاد السیاسی: معاشیات (علم)، قومی معیشت، اقتصاداً فی الوقت: وقت بچانے کے لئے۔ اقتصادی: معاشی، کفایت شعار، کم خرچ، سودمند، ماہر معاشیات، قومی معیشت کا ماہر۔ الاقتصادیات: معاشیات۔ قاصد: سیدھا (راستہ) آرام دہ، ہموار خوشگوار اور مختصر (سفر)۔ قاصِدٌ رسولی: داعیانہ نمائندہ۔ قصادۃ رسولیۃ: پاپائی سفارت خانہ۔ مَقْصُودٌ: ارادہ کیا ہوا، مطلوب، مدنظر رکھا ہوا، دانستہ، جان بوجھ کر، با مقصد، ارادتاً، دیدہ دانستہ، قصد کیا ہوا، چاہا ہوا۔

قَصْدِیر: ٹین۔

قصر: ۱ـ قَصَرَ ـَ قُصُورًا الشیئُ: ناقص ہونا، سستا ہونا۔ — عنہ الغضبُ او الوجعُ: کے غضب یا درد میں سکون ہونا۔ — قَصْرًا قیدَ البعیر: اونٹ کے پاؤں کی رسی کو تنگ کرنا۔ — الصلوٰۃ و من الصلوٰۃ: نماز کا ایک حصہ چھوڑ دینا کہا جاتا ہے قَصَرْتُ بکذا نفسُك: جبکہ تم تھوڑی چیز کو مانگو۔ — ـِ قَصْرًا الشیئَ: کو چھوٹا کرنا قَصُرَ ـُ قَصْرًا و قِصَرًا و قَصَارَۃً: ٹھگنا ہونا قَصَّرا الشیَٔ: کو چھوٹا کرنا۔ — من شعرِہ: بال چھانٹنا۔ — فی العطیۃ: کو کم کرنا۔ — عنہ الوجع او الغضبُ: کے درد یا غصہ میں سکون ہونا۔ اَقْصَرَہُ: کو چھوٹا کرنا، کا طول کم کرنا۔ الکلام: مختصر کلام کرنا۔ من الصلوٰۃ: نماز میں سے کچھ چھوڑ دینا۔ ـت المرأۃُ: چھوٹے چھوٹے بچے جننا۔ تَقَاصَرَ الرجُلُ: کوتاہی ظاہر کرنا۔ — الظلُّ: سایہ کا سمٹنا۔ ـتْ نفسُہُ: بتکلف چھوٹا بننا۔ اِسْتَقْصَرَہُ: کو کوتاہ یا کوتاہی کرنے والا سمجھنا۔ کَلَاٌ قَاصِرٌ: گھاس کہ اس کے اور پانی کے درمیان میں کتے کی آواز کے پہنچنے کا فاصلہ ہو۔ القِصَرُ: چھوٹا پن۔ القِصَارَۃُ: پست قد عورت، کہا جاتا ہے۔ ھُوَ ابْنُ عَمِّی قَصْرَۃً اَوْ قُصْرَۃً: وہ میرا قریبی چچازاد بھائی ہے۔ القَصِیرُ ج قِصَار و قُصَراءُ مونث قَصِیرَۃٌ ج قِصَارٌ و قَصِیرَاتٌ و قَصَائِرُ: چھوٹا ٹھگنا۔ — قَصِیرُ العِلْمِ: کم علم۔ — الاَحَادِیثُ القِصَارُ: جامع اور مفید باتیں، کہا جاتا ہے ھُوَ ابْنُ عَمِّی قَصِیرَۃً او مَقْصُورَۃً: وہ میرا قریبی چچازاد بھائی ہے۔ الاَقْصَرُ ج اَقَاصِرُ

marfat.com

واَقْصَرُوْنَ مونث قُصْرٰی ج قُصَرُ: اسم تفضیل۔ زیادہ چھوٹا۔

۲ـ قَصَرَ ـُ قُصُورًا الطعامُ: بڑھنا۔ — اللحمُ: مہنگا ہونا۔ القَصْرُ ج قُصُورٌ محل۔ قَصْرُ المَجْدِ: مجد و شرافت کی کان، کہا جاتا ہے ھُوَ جَارِیْ مُقَاصِرِیْ: یعنی اس کا محل میرے محل کے مقابل ہے۔

۳ـ قَصَرَ ـُ قُصُورًا عن الشیئ: سے رکنا اور اسے بے بسی سے چھوڑ دینا۔ — السهمُ عن الهَدَف: تیر کا نشانہ پر نہ پہنچنا۔ — ت بنا البقعۃُ: مقصود کو نہ پہنچانا۔ قَصَرَ ـُ قَصْرًا الشیئَ: کو روکنا۔ — السترَ: پردہ لٹکانا۔ — بہ اللیلُ: کو روکنا۔ — الدارَ: گھر کو دیواروں سے محفوظ کرنا۔ قَصَرَ ـِ قَصْرًا الظلامُ: مخلط ہونا۔ — الشیئَ علی کذا: کو پر منحصر کرنا۔ نَفْسَہٗ علی کذا: دوسری طرف نگاہ نہ اٹھانا۔ — ہٗ علی الامر: کو کی طرف لوٹانا۔ — ہٗ فی بیتہ: کو اس کے گھر میں قید کرنا۔ — علی نفسہ ناقۃً: اونٹنی کو دودھ پینے کے لئے اپنے لئے خاص کر لینا۔ ایسی اونٹنی کو مقصورہ کہتے ہیں۔ قَصَّرَ فی الامر: میں کوتاہی کرنا۔ — عن الامر: سے باوجود قدرت رکھنے کے رکنا۔ — عن الشیئ: کو طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے چھوڑنا۔ — الرجُلُ او الفرسُ فی اصطلاح العامۃ: چلنے میں تھکنا، کمزور ہونا۔ اَقْصَرَ المطرُ: بارش رک جانا۔ — فلانٌ: شام کے وقت داخل ہونا۔ و تَقَاصَرَ عن الامر: سے باوجود قدرت کے باز رہنا۔ تَقَصَّرَ بفلان: کے ساتھ مشغول ہونا۔ اِقْتَصَرَ علی کذا: پر اکتفا کرنا۔ اِسْتَقْصَرَہُ: کو کوتاہ یا کوتاہی کرنے والا سمجھنا۔ القَاصِرَۃُ، القَاصِرُ کا مونث۔ اِمْرَأَۃٌ قَاصِرَۃُ الطَّرْفِ: عورت جو اپنی نگاہ کو صرف اپنے شوہر پر ہی مرکوز رکھے۔ القَصْرُ: کوتاہی، کوشش، غایت، کہا جاتا ہے۔ قَصْرُكَ اَنْ تَفْعَلَ کَذَا: تمہاری انتہائی طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ القَصَرُ: کاہلی، سستی، کوتاہی۔ القُصَارُ: تقصیر، سستی۔ و القُصَارُ و القُصَارٰی: کوشش کرنا، غایت کہا جاتا ہے۔ قُصَارُكَ او قَصَارُكَ او قُصَارَاكَ اَنْ تفعَلَ کَذَا: تمہاری انتہائی طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ القُصَارَۃُ: کشادہ، اور محفوظ مکان۔ القُصْرَۃُ: تقصیر۔ القَصَرَۃُ: کاہلی سستی۔ القُصْرٰی: آخر امر۔ القَصَّارُ: اسم مبالغہ۔ القُصُورُ: کوتاہی، نقص۔ القَصُورَۃُ و القَصِیرَۃُ من النساء: وہ عورت جس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ المَقْصِرُ و المَقْصَرُ و المَقْصَرَۃُ ج مَقَاصِیرُ و مَقَاصِرُ: شام۔ المَقْصُورَۃُ ج

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مَقَاصِيرُ: محفوظ کشادہ مکان۔ دلہن کا مزین کمرہ۔ - عن النساء: جس عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ مَقْصُورَةُ الدَّارِ: کمرہ۔

۴۔ قَصِرَ ـَ قَصَرًا: خشک گردن والا ہونا، کی گردن میں درد ہونا صفت قَصِرٌ و اَقْصَرُ مونث قَصِرَۃٌ و قَصْرَاءُ۔ اِقْتَصَرَہٗ: کی گردن کی جڑ پکڑنا۔ القَصَرَۃُ ج قَصَرٌ و اَقْصَارٌ و قَصَرَاتٌ: گردن کی موٹی جڑ۔ القُصْرَيَانُ (ع ا) پسلی کی دو ہڈیاں جو گردن کے قریب ہیں۔ النِّقْصَارُ و التِّقْصَارَۃُ ج تَقَاصِيرُ: ہار، مالا۔

۵۔ قَصَّرَ الثوبَ کپڑے کو پٹکنا اور سفید کرنا۔ القَصَّارُ: دھوبی (فارسیہ) القَصَرَۃُ ج قَصَرٌ و اَقْصَارٌ و قَصَرَاتٌ لکڑی کا ٹکڑا۔ القِصَارَۃُ دھوبی کا پیشہ۔ المِقْصَرُ و المِقْصَرَۃُ دھوبی کا تختہ۔ المَقْصُورُ روئی کا سفید باریک کپڑا۔

۶۔ القَصْرُ ج قُصُورٌ بہت لکڑی۔ ماءٌ قَاصِرٌ گھاس سے دور پانی (اور بقول بعض) ٹھنڈا پانی۔ القَصَرُ و القِصْرَى غلہ کا کوڑا کرکٹ جو چھلنی میں باقی رہ جائے، گاہنے کے بعد خوشہ میں جو دانہ باقی رہ جائے۔ القَصَرَۃُ ج قَصَرٌ و اَقْصَارٌ و قَصَرَاتٌ غلہ کا کوڑا کرکٹ جو چھنی میں باقی رہ جائے۔ گاہنے کے بعد خوشہ میں جو دانہ رہ جائے، پرندہ کی دم کی جڑ۔ القُصَارَۃُ بمعنی القصر۔ قُصَارَۃُ الارضِ: زمین کا زرخیز ٹکڑا۔ القِصْرِیُّ بمعنی القَصَر: ـ و القَصْرِی (ج) سانپ کی ایک قسم۔ القَصْرِیُّ و القِصْرِیُّ گاہنے کے بعد خوشہ میں جو دانہ باقی رہ جائے کہا جاتا ہے رَجُلٌ قَصْرِیٌّ یعنی خاص آدمی اور اس کا مقابل۔ عُمِّیٌّ یعنی عام ہے۔ القَصْرِیَّۃُ: وہ برتن جس میں جسم کے فضلات ڈالتے ہیں (عامیہ)۔ سَيْلٌ قَصِيرٌ: سیلاب جو وادی کو نہ بھرے۔ قَيْصَرُ ج قَيَاصِرَۃٌ: شاہان روم کا لقب۔ الاُقَيْصِرُ بعض عرب کے ایک بت کا نام۔ المَقَاصِرُ واحد مَقْصُورٌ: درخت کی جڑیں۔ مَقَاصِيرُ الطُّرُقِ: راستے کے اطراف واحد مَقْصَرَۃٌ:

◌ قَصَرَ ـُ قَصْرًا قِصَارَۃً ھ کو سفید کرنا، کا رنگ اڑانا۔ قَصَّرَ ھ کو چھوٹا کرنا، کی تلخیص کرنا۔ - عن: (ھدف) تک نہ پہنچ سکنا، کا نااہل ہونا، کے لئے ناکافی ہونا، کو نہ کرسکنا، کو انجام دینے، حاصل کرنے یا تک پہنچنے میں ناکام ہونا، کے برابر نہ ہونا، کے قابل نہ ہونا، سے نبٹنے کے قابل نہ ہونا، سے نبٹنے کے ناقابل ہونا۔ - ناکافی ہونا، کم مرتبہ ہونا۔ ـــ فی میں بے پروا ہونا، فرض ناشناس ہونا، کوتاہی کرنا، پیچھے رہ جانا، غافل ہونا، کو نظر انداز کرنا۔ - عن سے احتراز کرنا۔ لم یُقَصِّر فی: اس نے اس میں کوئی دریغ نہ کیا، اس نے کوئی کام کئے بغیر نہیں چھوڑا، وہ اس میں ناکام نہیں رہا۔ تَقَاصَرَ سکڑنا، سمٹنا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا۔ ـــ عن کا نااہل ہونا، سے باز رہنا۔ اِقْتَصَرَ علی: تک محدود رہنا، پر صابر شاکر یا قانع ہونا۔ اِسْتَقْصَرَ ھ کو کم پانا، ناکافی یا ناقص سمجھنا۔ قُصْرُكَ ان تفعل ھذا: زیادہ سے زیادہ جو تم سرانجام دینے کی امید کرسکتے ہو وہ یہ کرسکنا ہے، تمہیں یہ کرنے تک محدود رہنا چاہئے، قُصارك ان تفعل ھذا اور قُصاراك ان تفعل ھذا بھی انہیں معانی میں ہے۔ قَصَّار سفید کرنے والا، رنگ اڑانے والا۔ قِصَارَۃ سفید کرنے یا رنگ اڑانے والے کا پیشہ۔ بَذَلَ قُصَارَى الجَهْد یا بذل قصاراہ ل کے لئے ہر سمجھ میں آنے والی کوشش کرنا، ہر طرح کی کوشش کرنا، اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کر بھی کوشش کرنا، پورا زور لگانا، مقدور بھر کوشش کرنا، اپنے بس میں جو کچھ ہو اس سے جدوجہد کرنا، پوری کوشش کرنا۔ قُصَارَى الامر اور قُصَارَى القول: الغرض، المختصر، قصہ کوتاہ، قصہ مختصر۔ اَقْصَر: زیادہ چھوٹا، زیادہ کم (وغیرہ)۔ الاقصر: بالائی مصر کے ایک شہر کا نام جسے انگریزی میں Luxor کہا جاتا ہے۔ قَصِير الباع کمزور، نااہل، ناقابل، بے بس، بے اختیار، بے چارہ، از حد کفایت شعار، بخیل، کنجوس۔ قَصِير الید بمعنی بالا، قَاصِر عن کا نااہل، کو کرنے کے ناقابل، تک محدود، کے لئے مخصوص، لازم (گرامر) جمع قُصَّر قانونی طور پر نابالغ۔ قاصِرَۃُ الطرف پاکدامن، متین، حیادار (عورت) مقصورۃ الطرف: بمعنی بالا۔ مَقْصُورَۃ جمع مقصورات و مَقَاصِير محل، حجرہ (ٹرین کا) ڈبہ، کمرہ، مسجد میں محراب کے قریب نشست جو حاکم کے لئے مخصوص ہوتی ہے، سینما یا تھیٹر کا بکس، مسجد کا وہ حصہ جس میں اجتماعی نماز ادا کی جائے (مجرم کا) کٹہرا، گرجا میں مخصوص عبادات کے لئے وقف حصہ۔ مُقَصِّر: کام میں سست، بے پرواہ، غافل، غفلت شعار، سہل انگار۔ مُقْتَصِر علی: تک محدود مُقْتَصَر مختصر، موجز، جامع، تلخیص مُلَخَّص

قصع ۱۔ قَصَعَ ـَ قَصْعًا القملةَ بظفرہ: جوں کو ناخن سے مار ڈالنا۔ ـــ ت الرحی الحَبَّ: چکی کا دانہ کو پیسنا۔ - الغلامَ او ھامتَہٗ: لڑکے کے سر پر تھپڑ مارنا۔ - الرجُلَ: کو ذلیل کرنا، حقیر کرنا۔ قَصِعَ ـَ قَصَعًا و قَصُعَ ـُ قَصَاعَةً الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونے میں تاخیر کرنا۔ ـ للغُلامُ القَصِعُ: مونث قَصِعَةٌ و القَصِيعُ: مونث قَصِيعَةٌ و قَصِيعٌ و المَقْصُوعُ مونث مَقْصُوعَةٌ: دیر سے جوان ہونے والا لڑکا۔ - المِقْصَعُ من السیوف: شمشیر براں۔

۲۔ قَصَعَ ـَ قَصْعًا: پانی کے گھونٹ نگلنا۔ ـــ و قَصَّعَ الماءُ عطشَہٗ: پانی کا کی پیاس بجھانا۔

۳۔ قَصَعَ ـَ قَصْعًا الجرحُ بالدم: زخم کا خون سے بھرنا۔ ـــ ت الناقةُ بجِرَّتِها: جگالی کو پیٹ میں لوٹا دینا بقول بعض جگالی کو نکالنا اور اس سے منہ بھرنا کہا جاتا ہے۔ قَصَعَ الشیطانُ فی قفاہُ غضبناک ہوا اور بدخلق ہوا۔ قَصَّعَ الجرحُ بالدم زخم کا خون سے بھرنا۔ - الضبُّ: گوہ کا بل کے منہ کو بند کر دینا۔ ـ ت الناقةُ بِجَرَّتِها: اونٹنی کا جگالی کو لوٹا دینا۔ - الزرعُ من الارض: کھیتی کا زمین سے اُگنا۔ کہا جاتا ہے: قَصَّعَ الشیطان فی قفاہ: وہ غضبناک ہوا، بدخلق ہوا۔ تَقَصَّعَ الجرح بالدم زخم کا خون سے بھرنا۔ ـــ الیربوعُ التراب جنگلی چوہے کا سوراخ سے مٹی نکالنا۔ القُصْعَةُ ج قُصَعٌ و القُصَعَةُ و القُصَعَاءُ و القُصَاعَةُ و القَاصِعَاءُ ج قَوَاصِعُ و القُصَيْعَاءُ: جنگلی چوہے کا بل۔

۴۔ قَصَعَ ـَ قَصْعًا البیتَ گھر میں رہنا۔ قَصَّعَ البیتَ: گھر میں رہنا۔ - الرجُلُ فی ثوبہ کپڑے میں لپٹنا۔ تَقَصَّعَ البیتَ گھر میں رہنا۔

۵۔ القَصْعَةُ ج قِصَعٌ و قِصَاعٌ و قَصَعَاتٌ: پیالہ، القَصَّاعُ: پیالے بنانے والا۔

◌ قَصْعَة جمع قَصَعات و قِصَع و قِصاع: (لکڑی یا تانبے کا) بڑا پیالہ، کیتلی۔

قصف ۱۔ قَصَفَ ـِ قَصْفًا الشیءَ: کو توڑنا۔ ـ الشیءُ: ٹوٹنا۔ قَصِفَ ـَ قَصَفًا النبتُ: پودے کا لمبے ہونے کی وجہ سے جھک پڑنا۔ ـــ العودُ: کمزور و ضعیف ہونا صفت اَقْصَفُ و قَصِفٌ ـ الرجُلُ: کمزور و ضعیف ہونا۔ - الرمحُ: نیزہ کا عرض میں پھٹ جانا۔ النابُ: دانت کا آدھا ٹوٹنا۔ ـــ ت القناةُ بغیر جدا ہوئے ٹوٹنا۔ قَصَّفَ ہ کو توڑ دینا۔ اَقْصَفَ العودُ نرم و باریک ہونا۔ ـــ القومُ عنہ: کو عاجز ہو کر چھوڑ دینا۔ تَقَصَّفَ: ٹوٹنا۔ ـــ علیہ القومُ: پر یا کے پاس قوم کا اکٹھا ہونا۔ ـ فی مشیہ او فی رقصہ: چلتے یا ناچتے ہوئے پاؤں کا مڑ کر ٹوٹنے کے قریب ہونا۔ تَقَاصَفَ القومُ: اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ اِنْقَصَفَ: ٹوٹنا۔ ـــ السیلُ: سیلاب کا رواں ہونا۔ ـــ القومُ علیہ: کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پاس پے درپے آنا۔ ۔ القومُ عنه: کوستی کی وجہ سے
چھوڑ دینا۔ القاصِفُ (فا) ریح قاصف او قاصفة:
بہت تیز ہوا۔ القَصِفُ: دو برابر حصوں میں ٹوٹا ہوا۔
مدد سے جلد عاجز ہونے والا مرد۔ ـــ القَصِفُ
البَطْنِ: بھوک کی تاب نہ رکھنے والا۔ القَصْفَةُ ج
قَصْفٌ و قُصْفَانٌ: مڈبھیڑ پر گھوڑوں کا سر توڑ زور
، سیڑھی کا پایہ ــ من القوم بھیڑ، ہجوم۔ القَصِيفُ:
دو برابر حصوں میں ٹوٹا ہوا، درخت کا ٹوٹا ہوا حصہ۔
الاَقْصَفُ: وہ شخص جس کا دانت آدھے حصے سے ٹوٹ
جائے۔

٢۔ قَصَفَ ـُ قَصْفًا و قُصُوفًا کھانے پینے اور کھیل کود
میں زیادہ مصروف رہنا۔ قصف ـِ قصْفًا و قصِيفًا
العبدُ: اونٹ کا دانت پیسنا اور بڑبڑانا۔ ــ الرعدُ
بادل کا زور سے گرجنا۔ قصف قصفا ہ بمدافعه
پر بم پھینکنا۔ اس معنی میں قصفه بقذائف مدافعه
بھی کہا جاتا ہے۔ تقصّف القومُ قوم کا دھمکی یا جھگڑے
میں شور مچانا۔ رَعْدٌ قاصِفٌ: بہت گرجنے والا بادل
القَصْفُ شور وغل، کھیل کود کا اعلان، کھیل کود کھانے
پینے میں مشغولیت، باجہ کی آواز۔ القَصَفَةُ: اونٹ
کے دانتوں کی آواز اور بڑبڑاہٹ۔ القُصُوفُ:
اونٹ کی بڑبڑاہٹ اور دانتوں کی آواز، کھیل کود
اور کھانے پینے میں مشغولیت۔ المَقْصَفُ ج مَقَاصِفُ:
کھانے پینے اور کھیل کود کی جگہ۔

٭ قَصَفَ ـِ قَصْفًا ہ توڑنا، پاش پاش کرنا، ــ ہ کو
دق کرنا، ستانا، پریشان کرنا، سخت دبانا، پچھاڑنا۔ ـــ
ہ پر بم پھینکنا، بمباری کرنا۔ ــ (توپ کا) گرجنا،
دھاڑنا، (بادل، بجلی کا) گرجنا، کڑکنا، گڑگڑانا، گونجنا۔
ــ قَصْفًا و قُصُوفًا: لطف اندوز ہونا، کھل کھیلنا، داد
عیش دینا، امارت کی زندگی بسر کرنا، قَصِفَ ـَ قَصَفًا:
ٹوٹنا، کمزور ہونا، نازک ہونا۔ جلد ٹوٹ جانے والا ہونا،
پھوک ہونا، بےلوچ ہونا۔ تَقَصَّفَ و انْقَصَفَ:
ٹوٹنا۔ ٹوٹا ہوا ہونا، ٹوٹ جانا۔ قَصْفٌ (توپ کی)
گرج دھاڑ، خوشی کا ہنگامہ، رنگ رلیاں، بلانوشی، عیش
کوشی، سیہ مستی، رندی۔ قَصِفٌ نازک، ٹوٹا ہوا، جلد
ٹوٹ جانے والا۔ قَصْفٌ ف خوشی کا ہنگامہ، رنگ
رلیاں، بلانوشی، عیش کوشی، سیہ مستی، رندی۔ مَقْصَفٌ
جمع مَقَاصِفُ: طعام گاہ، کینٹین، رقص گاہ (کاسینو)۔
ہوٹل کی شراب گاہ (بار) بوفے (Buffet)۔

قصل ا۔ قَصَلَ ـِ قَصْلًا الشیئَ کو کاٹنا، صفت فاعلی
قَاصِلٌ اور صفت مفعولی قَصِيلٌ و مَقْصُولٌ ۔ ـــ
عنقَهُ: کی گردن پر مارنا۔ ــ الدابة و علیها: جانور کو
کٹے ہوئے سبز جو کا چارہ دینا۔ تَقَصَّلَ و انْقَصَلَ:
کٹنا۔ اِقْتَصَلَ الشیئَ کو کاٹنا۔ الشیئُ: کٹنا۔
سَيْفٌ قَاصِلٌ: شمشیر براں۔ القَصْلَةُ کھیتی کا کٹا ہوا
حصہ۔ ــ و القُصْلَةُ: اونٹوں کا گلہ۔ القَصَّالُ (ح)
شیر۔ سَيْفٌ قَصَّالٌ شمشیر براں۔ القَصِيلُ ج
قُصْلَانٌ: سبز جو جو کاٹ کر جانوروں کو چارہ کے طور پر
دیا جائے، جماعت۔ سَيْفٌ مِقْصَلٌ شمشیر براں۔
لِسَانٌ مِقْصَلٌ تیز زبان۔ المِقْصَلَةُ مارنے کا
ایک آلہ جس میں چھری ہوتی ہے اور مجرم کے سر پر
گرتی ہے۔ سرقلم کرنے کی مشین۔

٢۔ قَصَلَ ـِ قَصْلًا الحنطة گندم گاہنا القَصْلُ (مص)
و القَصَلُ و القُصَالَةُ: گندم کا ردی حصہ جو پھینک دیا
جائے یا دوبارہ گاہا جائے۔ القِصْلُ بمعنی القَصْلُ
مونث قِصْلَةٌ بےخیر بےوقوف، کمزور۔ کمینہ

٣۔ اِقْصَالٌ بہ پر قبضہ کرنا۔

٤۔ اِقْصَالٌ بالمکان کسی جگہ اقامت کرنا۔

٭ قَصَلٌ: بھوسی، چوکر، بھوسا، اناج کا چھلکا، اناج یا گھاس
کا ریشہ قَصْلَةٌ ڈنٹھل، ڈنڈی۔ قَصِيلٌ جو۔ قَصَّالٌ
و مِقْصَلٌ: تیز، قاطع، تیز نوکدار۔ مِقْصَلَةٌ سر قلم
کرنے کی مشین۔ قَاصِلٌ تیز، قاطع۔

قصم ا۔ قَصَمَ ـِ قَصْمًا الشیئَ کو توڑنا۔ ـــ
الرجلَ: کو ہلاک کرنا۔ فلانٌ سفر توڑ دینا اور واپس
آنا، کہا جاتا ہے۔ قَصَمَ اللّٰهُ ظَهْرَ الظّالِمِ اللہ ظالم
کی پیٹھ کو توڑ دے یعنی اس پر کوئی مصیبت نازل کرے
اور کہا جاتا ہے۔ قَصَمَ اللّٰهُ عُمْرَ الكافِرِ: اللہ نے
کافر کی زندگی ختم کردی۔ قَصِمَ ـَ قَصَمًا ت
سِنُّهُ: کے اگلے دانت کا نصف سے ٹوٹنا۔ تَقَصَّمَ
و انْقَصَمَ ٹوٹنا، کہا جاتا ہے۔ نزلت بهم قاصِمَةُ
الظَّهرِ یعنی ان پر ہلاکت واقع ہوئی۔ القُصَمُ:
ہر چیز کو توڑ دینے والا۔ القَصْمُ واحد قَصْمَةٌ اگلے
دانت کا نصف سے ٹوٹنا، نڈی کے انڈے۔
القَصِمُ جلدی ٹوٹنے والا۔ القُصْمَةُ و القِصْمَةُ
ٹکڑا۔ القَصْمَةُ: قصم کا اسم مرہ: ٹکڑا، سیڑھی کا
پایہ۔ القَصِيمُ جلد ٹوٹنے والا۔ القَصِيمَةُ ج
قَصِيمٌ و قُصُمٌ و قَصَائِمُ القَصِيمُ کی مونث،
ریتلی زمین جس میں کثرت سے غضا درخت ہوں کہا
جاتا ہے۔ ذهبوا يحطبون في القصيم وہ لوگ
جا کر غضا درخت کی لکڑیوں کو چن رہے تھے۔
القَيْصُومُ (ن): ایک خوشبودار پودا جس کی دوائی بنائی
جاتی ہے۔ الاَقْصَمُ مونث قَصْمَاءُ ج قُصْمٌ: وہ
شخص جس کا اگلا نصف دانت ٹوٹا ہوا ہو۔ القَصْمَاءُ
من المعز: بکری جس کا سینگ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو۔

٢۔ قَصْمَلَ الرجلُ: چلنے میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔
ــ ہُ کو پچھاڑنا۔ الشیئَ کو کاٹنا ــ الطعامَ کھانا
سب کھا جانا۔ ــ و تَقَصْمَلَ الفصِيلُ: اونٹ کے
بچہ کا قُصْمل کی بیماری والا ہونا۔ القُصْمُلُ ایک
بیماری جو اونٹوں کے بچوں کو ہوتی ہے جس سے وہ مر
جاتے ہیں۔ القَصْمَلُ مضبوط مرد۔ القِصْمِلُ:
مضبوط مرد (ح) شیر کہا جاتا ہے۔ اَلتَّقَمَهُ القَصْمَلَى:
یعنی بہت حرص سے کھایا۔

٭ قصمَ ـِ قَصْمًا ہ توڑنا، پاش پاش کرنا۔ قصم
ظَهْرَهُ: کی کمر توڑنا یعنی کسی شخص کے لئے جان لیوا
ضرب ہونا۔ تَقَصَّمَ ٹوٹنا، ٹوٹا ہوا ہونا، ٹوٹ جانا۔
انْقَصَمَ بمعنی تَقَصَّمَ۔ قَصِمٌ آسانی سے ٹوٹا
ہوا، پھوک، بےلوچ، جلدی ٹوٹ جانے والا۔
قَاصِمٌ جمع قَوَاصِمُ توڑنے والا۔ قَاصِمَةُ
الظَّهرِ: جان لیوا ضرب، مصیبت، بلائے ناگہانی۔
ضَرَبَاتٌ قَوَاصِمُ جان لیوا ضربیں۔

قصو ا۔ قَصَا ـُ قَصْوًا و قُصُوًّا و قَصًا و قَصَاءً
و قَصِيَ يَقْصَى قَصًا المکانُ: جگہ کا دور ہونا۔ ــ
الرجلُ عن القوم سے علیحدگی اختیار کرنا۔ قَاصَى
مُقَاصَاةً الرجلَ: کو دور کرنا، کہا جاتا ہے: قَاصَانِي
فَقَصَوْتُهُ: اس نے مجھ سے دور ہونا چاہا تو میں اس
سے زیادہ دور ہو گیا اور یہ افعال مغالبہ میں سے ہے۔
هَلُمَّ اُقَاصِيكَ ايُّنا ابعد من الشر: آؤ تم سے
مقابلہ کریں دیکھیں ہم میں سے شر سے کون بعید ہے۔
اَقْصَى فلانًا عنه: کو سے دور کرنا۔ ــ الشیئَ کی
انتہاء پر پہنچنا کہا جاتا ہے: نَزَلْنا منزلًا لا يُقْصِيهِ
البَصَرُ: ہم ایسی جگہ میں اترے جس کی انتہاء حد بصر
سے خارج ہے۔ تَقَصَّى تَقَصِّيًا دور ہونا۔ ـــ
المسالةَ و فيها مسئلہ کی تہہ تک پہنچنا، تَقَاصَاهُم:
بعید لوگوں میں سے ایک ایک کو بلانا۔ اِسْتَقْصَى
المسالةَ و فيها مسئلہ کی تہہ تک پہنچنا۔ القَاصِي
(فا) ج قَاصُونَ و اَقْصَاءٌ دور۔ القَاصِيَةُ:
القَاصِي کا مونث کنارہ۔ ـــ من الشاء ریوڑ سے
علیحدہ ہونے والی بکری۔ نَعْجَةٌ قَاصِيَةٌ بوڑھی
بھیڑ۔ القَصَا (مص) دور کا نسب، کنارہ، کہا جاتا
ہے: خُطِّي القَصَا: یعنی مجھ سے دور ہو جا۔
ذَهَبْتُ قَصَاهُ میں اس کی طرف چلا۔ ــ و القَصَاءُ:
گھر کے سامنے کا صحن۔ القَصِيُّ ج اَقْصَاءٌ مونث
قَصِيَّةٌ ج قَصَايَا دور، کہا جاتا ہے: رَمَيْتَ المَرْمَى
القَصِيَّ یعنی تم گمان اور تاویل میں بہت دور چلے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

گئے۔ القَصِيَّةُ: اصیل اونٹنی، بداصل اونٹنی۔ الاَقْصٰی ج اَقَاصٍ مونث قُصْوٰی و قُصْيَا: اسم تفضیل، زیادہ دور۔ القُصْوٰی و القُصْيَا: وادی کا کنارہ، دور کی حد۔

٢۔ قَصَا ـُ قَصْوًا الناقَةَ او الشاةَ: اونٹنی یا بکری کے کان کا تھوڑا سا کنارہ کاٹ دینا۔ قَصّٰی تَقْصِيَةً الناقَةَ: اونٹنی کے کان کا تھوڑا سا کنارہ کاٹ دینا۔ الاظفارَ: ناخن تراشنا۔ القَصَا: اونٹنی یا بکرے کے کان کے کنارہ کو تھوڑا سا کاٹنا القَصْوَةُ: کان کے اوپر کے حصہ پر داغ۔ الاَقْصٰی مونث قَصْوَاءُ و المَقْصُوُّ و المَقْصِيُّ و المُقَصّٰی من الجمال: اونٹ جس کے کان کا کنارا ذرا سا کٹا ہوا ہو۔ شَاةٌ مَقْصُوَّةٌ و مُقَصَّاةٌ: بکری جس کے کان کا کنارہ ذرا سا کٹا ہوا ہو۔

○ قصا ـ قَصْوًا و قُصُوًّا و قَصَاءً و قَصِيَ ـَ قَصًا و قَصًى عن: سے دور ہونا، دور کیا ہوا ہونا، بڑے فاصلہ پر ہونا ـــ: دور ہونا ـــ عن: سے دور چلا جانا۔ اَقْصٰی ہ عن: کو سے دور لیجانا، دور بھیجنا ـــ ہ عن: کو سے ہٹانا، دور کرنا، گھسیٹ کر دور کرنا ـــ ہ عن الخدمة: کو کسی نوکری، ملازمت یا کام سے برخواست کرنا ـــ ہ: کی انتہائی حد تک پہنچنا۔ لا يُقْصِيهِ البَصَرُ: غیر مرئی، نظروں سے اوجھل، نہ دکھائی دینے والا۔ تَقَصّٰی عن: سے دور چلے جانا ـ ہ: (کسی مسئلہ وغیرہ) کی تہ کو پہنچنا، کی تحقیقات کرنا، کی تفتیش کرنا، کا مطالعہ کرنا، جائزہ لینا، کی تہ تک جانا، کو کسی نتیجہ تک پہنچا کر پیچھا چھوڑنا، کا آخر تک پیچھا کرنا، چھو کر جانچنا۔ اِسْتَقْصٰی ہ: کسی مسئلہ وغیرہ کی تحقیقات کرنا، کی گہرائی تک پہنچنا، کا جائزہ لینا، مطالعہ کرنا، کی تفتیش کرنا، کی جڑ تک جانا ـــ عن: کے بارے میں تحقیقات کرنا۔ قَصًا و قَصَاء: دوری فاصلہ۔ قَصِي جمع اَقصاء: دور، بعید، دور کا۔ اَقْصٰی مونث قُصْوٰی جمع اَقَاصٍ: زیادہ دور، زیادہ بعید، زیادہ فاصلہ پر، انتہائی دور، انتہائی بعید، دور ترین، زیادہ سے زیادہ، دور ترین حصہ، حد، انتہاء، انجام۔ المسجد الاقصٰی: یروشلم میں ایک مسجد کا نام۔ الشرق الاقصٰی: مشرق بعید المغرب الاقصٰی: مراکش، الغاية القُصْوٰی من: زیادہ سے زیادہ۔ اَقَاصِي الارض: زمین کے بعید ترین خطے عند الضرورة القُصْوٰى: سخت ضرورت کی صورت میں۔ بدترین صورت حال میں بھی۔ الی اَقْصٰی حَدّ: انتہائی حد تک حتی المقدور، پوری طرح، زیادہ سے زیادہ، جہاں تک ممکن ہو۔ من اَقصاه الی اَقْصاه یا من اَدْناه الی اقصاه: ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اول سے آخر تک، (کے) ہر حصہ میں (میں) ہر جگہ، سراسر، ہر چیز بلا استثناء۔ تَقَصٍّ: مکمل تحقیق، پوری چھان بین، تفصیلی تحقیقات۔ استقصاء: بمعنی بالا۔ استقصاء عن: کے بارے میں پوچھ گچھ۔ قاصٍ جمع قاصُون و اَقْصَاء: دور، بعید، بہت دور۔ القاصي و الداني: دور اور قریب کا، ہر شخص، سب لوگ۔ في القاصية و الدانية: نزدیک اور دور۔

قضّ: ١۔ قَضَّ ـُ قَضًّا عليهم الخيلَ: کسی جماعت پر گھوڑوں کو بھیجنا اور متفرق کرنا۔ الحائطَ: دیوار کو زور سے گرانا ـــ الوتدَ: کھونٹی اکھیڑنا۔ اَقَضَّ عليه الهمُّ: پر غم نازل ہونا۔ تَقَضَّضَ الطائرُ: پرندے کا نیچے اترنا، کہا جاتا ہے۔ تَقَضّٰى تَقَضِّيًا: دوسرے ضاد کو یاء سے بدل کر جیسا تَظَنَّنَ سے تَظَنّٰى اور بعض کا کہنا ہے کہ قَضَّ سے تفعل کے وزن پر یاء سے بدل کر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اِنْقَضَّ الجدارُ: دیوار کا گرنا، پھٹنا ـــ الطائرُ: پرندے کا نیچے اترنا ـــ البازی علی الصيد: شکار پر جھپٹنے کے لئے اڑان تیز کرنا ـــ ت الخيلُ علی القوم: پر گھوڑوں کا منتشر ہونا۔ کہا جاتا ہے قَضَضْنَا عَلَيْهِمُ الخَيْلَ فَانْقَضَّتْ عَلَيْهِم: ہم نے ان پر گھوڑے دوڑائے پس وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اِنْقَاضَّ الجدارُ: دیوار کا گرنا، پھٹنا۔ اِسْتَقَضَّ الهمَّ: غم کا زوال چاہنا۔

٢۔ قَضَّ ـُ قَضًّا الشيءَ: کو باریک کرنا ـــ الطعامَ: کھانے میں کوئی خشک چیز مثلاً گرد یا شکر ڈالنا۔ قَضَّ ـَ قَضَضًا المكانُ او الطعامُ: جگہ یا کھانے کا کنکری دار ہونا۔ قَضَّ ـِ قَضِيضًا السَّيْرُ او الوترُ: تسمہ یا تار کا چڑ چڑانا، چٹخنا۔ اَقَضَّ المكانُ او الطعامُ: بمعنی قَضَّ ـــ الرجلُ: باریک امور اور خواہشات کے درپے ہونا۔ اِنْقَضَّ: ٹوٹنا۔ اِسْتَقَضَّ الطعامُ او المكانُ: کنکری دار ہونا۔ القَضُّ (مص): کنکریاں ـــ و الاَقَضُّ: جس میں کنکریاں ہوں کہا جاتا ہے: جاءَ القومُ قَضُّهُمْ وقِضُّهُمْ و قَضَّهُمْ و قِضَّهُمْ و قَضِيضُهُمْ: یعنی سب آئے۔ (قَضَّ کا نصب مصدر یا حال کی بناء پر اور رفع تاکید کی وجہ سے کلمہ کے قائم مقام ہو کر آیا ہے۔) القَضِيضُ (مص): کنکریاں کہا جاتا ہے۔ جاءَ القومُ قَضُّهُمْ و قَضِيضُهُمْ او قَضُّهُمْ و قَضِيضُهُمْ: یعنی سب آئے۔ القَضَّةُ قَضَّ کا اسم مرہ، کنکری (القِضَاض کا واحد بمعنی تہ بہ تہ، پتھر، چھوٹا ٹیلہ۔ اَرْضٌ قَضَّةٌ: کنکریوں والی زمین۔ القِضَّةُ ج قِضَاضٌ: چھوٹی کنکریاں۔ القَضِيضُ: چھوٹی اور باریک کنکری، جس میں کنکری ہو، کہا جاتا ہے: جاءَ القومُ قَضُّهُمْ و قَضِيضُهُمْ وقَضَّهُمْ و قَضِيضَهُمْ و بِقَضِّهِمْ و قَضِيضِهِمْ: یعنی سب کے سب آئے۔

٣۔ قَضَّ ـُ قَضًّا الشيءَ: میں سوراخ کرنا۔

٤۔ قَضَّ ـَ قَضَضًا عليه المضجعُ: پر خواب گاہ کا سخت ہونا کہا جاتا ہے۔ قَضَّ الرَّجُلُ: جبکہ نیند نہ آئے اور آسودگی نہ حاصل ہو۔ اَقَضَّ المضجعَ: خواب گاہ کا سخت ہونا، کہا جاتا ہے۔ اَقَضَّ عَلَيْهِ المَضْجَعُ: اس پر خواب گاہ خاک آلود ہوگئی اور سخت ہوگئی ـــ اللّٰهُ مَضْجَعَهُ: خواب گاہ کو کھردرا کرنا۔ اِسْتَقَضَّ المضجعَ: خواب گاہ کو کھردرا پانا۔ القَضَضُ: خاک جو بچھونے پر پڑ جائے۔

٥۔ القُضَّةُ و القَضَّةُ: عیب القَضَّةُ: باقی ماندہ چیز۔ دھاگے کی چھوٹی اٹی الفِضَّةُ ج فِضَاضٌ: جنس

٦۔ قَضْقَضَ قَضْقَضَةً العظمُ: ہڈی کی ٹوٹتے وقت آواز آنا ـــ الاسدُ فريستَهُ: شیر کا شکار کو توڑنا اور چبانا۔ تَقَضْقَضَ: ٹوٹنا، متفرق ہونا۔ القَضْقَاضُ و القُضَاقِضُ و القُضَاقِصُ (ح): شیر۔ القِضْقَاضُ: ہموار زمین۔

قضی: ١۔ قَضِيَ يَقْضَأُ قَضْأً الشيءَ: کو کھانا۔ اَقْضَأَهُ: کو کھلانا۔

٢۔ قَضِئَ يَقْضَأُ قَضْأً السقاءُ: مشک کا خراب ہونا، بدبودار ہونا ـــ الثوبُ او الحبلُ: کپڑے یا رسی کا بوسیدہ ہونا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا ـــ تِ العينُ: آنکھ کا سرخ ہونا اور خراب ہونا۔ قَضِئَ قَضَاءً و قَضَاءَةً حَسَبُهُ: کا حسب تباہ ہونا کہا جاتا ہے۔ تَقَضَّأَ من فلانٍ اَنْ يُزَوِّجَهُ: یعنی اس کے حسب کو ذلیل سمجھا اور نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ القُضْأَةُ و القَضَاةُ: عیب، فساد، عار۔ القَضِيءُ: خراب، بدبودار کہا جاتا ہے۔ سِقَاءٌ قَضِيءٌ و قِرْبَةٌ قَضِيئَةٌ: خراب اور بدبودار مشک۔

○ اَقَضَّ مضجعَهُ یا اَقَضَّ عليه المضجعَ: کی نیند اڑا دینا۔ اِنْقَضَّ: اترنا، جھپٹا مارنا، غوطہ مارنا ـــ علی: پر (بجلی) گرنا۔ پر جھپٹا مارنا، پر گرنا، پر حملہ کرنے کے لئے جھپٹنا، پر حملہ کرنا ـــ: ٹوٹنا، میں درز پڑنا، بال آنا، گرنا، کے گرنے کا خطرہ پیدا ہونا۔ قَضٌّ: سنگریزے، کنکریاں، بجری جاءَ القومُ قَضُّهُم و قَضِيضُهُم: سب لوگ آئے قِضَّة: سنگریزے،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کنکریاں، بجری۔ قَضِیض: سنگریزے، کنکریاں، بجری۔ جاء القوم قضیضهم او بقضیضهم: سب لوگ آئے۔ اِنقضاض: جھپٹ، جھپٹنا، ٹوٹ پڑنا، سخت حملہ مِدْفَعُ الانقضاض جمع مَدافع: خودو کھیل توپ۔ طائرۃ الانقضاض: خوطہ خور طیارہ، طائرۃٌ مُنقضّۃ: خوطہ خور طیارہ۔

قضب: اـ قَضَبَ ـِ قَضْبًا الشیئَ: کو کاٹنا۔ ـــ الرجلَ: کو شاخ سے مارنا۔ قَضَّبَ الشیئَ: کو ٹکڑے کرنا۔ ـــ الکرمَ: موسم بہار میں انگور کی شاخیں تراشنا۔ ـــ شعاعُ الشمس: آفتاب کی کرن کا شاخوں کی طرح پھیلنا۔ اَقضبت الارضُ: زمین کا سبزہ زار ہونا۔ ساگ پات والی ہونا۔ تَقَضَّبَ الشیئُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ـــ شعاعُ الشمس: آفتاب کی کرن کا کٹی ہوئی شاخوں کی طرح پھیلنا۔ اِقتضبَ الشیئَ: کو کاٹنا۔ انقضب: کٹنا۔ ـــ الکوکبُ من مکانه: ستارے کا اپنی جگہ سے ہٹنا۔ سَیفٌ قاضِبٌ ج قَواضِبُ: بہت تیز کاٹنے والی تلوار۔ القاضِبۃُ: القاضب کی مونث، کہا جاتا ہے۔ مافِیْ فِیَّ قاضِبۃٌ: میرے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے۔ القَضْبُ واحد قَضْبۃٌ: لمبی اور لٹکتی ہوئی شاخوں والا درخت، (ن): ایک درخت کا نام جس کی لکڑی سے کمان بنایا کرتے تھے، کٹی ہوئی شاخیں۔ القَضْبۃُ ج قَضْبٌ: ساگ پات تر و تازہ جو کھایا جائے۔ ـــ ج قَضَباتٌ: شاخ، درخت نبع سے بنایا جانے والا تیر کا ڈنڈا۔ القِضْبۃُ: اونٹوں یا بکریوں کا گلہ، سبک رو (مروبا اونٹنی) القُضابۃُ: کاٹی ہوئی چیز کے ٹکڑے۔ سَیفٌ قَضّابٌ و قَضّابۃٌ: بہت تیز کاٹنے والی تلوار۔ رَجُلٌ قَضّابۃٌ: معاملات کو بحسن و خوبی طے کرنے والا۔ القَضِیبُ ج قُضبانٌ و قِضبانٌ: کٹی ہوئی شاخ۔ ـــ ج قُضُبٌ: شمشیر براں، باریک تلوار، کمان جو درست شاخ سے بنائی ہوئی ہو۔ المِقْضَبُ: درانتی۔ سَیفٌ مِقضَبٌ: بہت تیز کاٹنے والی تلوار۔ المَقْضَبۃُ ج مَقاضِبُ و مَقاضِیبُ: ساگ پات اگنے کی جگہ۔ المِقضاب: درانتی، بہت کاٹنے والا۔ ارضٌ مِقضاب: سبزہ زار زمین ساگ پات اگانے والی زمین۔ المُقتَضَبُ: اوزان شعر میں ایک بحر کا نام جس کا وزن یہ ہے۔ فاعلاتٌ مفتعلن: دو مرتبہ۔

۲ـ قَضَبَ ـِ قَضْبًا الناقۃَ: اونٹنی کو سدھانے سے قبل اس پر سوار ہونا۔ اِقتضبَ الناقۃَ: اونٹنی سدھانے سے قبل اس پر سوار ہونا۔ ـــ الکلامَ: فی البدیهه کلام کرنا۔ ـــ فلانًا: کو اچھی طرح سے کام کرنے کی صلاحیت سے قبل اس کے کرنے کی تکلیف دینا۔ القَضِیبُ ج قُضْبانٌ و قِضبانٌ: نہ سدھائی ہوئی اونٹنی۔ المُقتَضَبُ: کام کی صلاحیت نہ ہونے سے پہلے اس کے کرنے کی تکلیف دیا ہوا ـــ من الشعر والکلام: فی البدیہہ شعر یا کلام۔

قَضَبَ ـِ قَضْبًا ہ: کو کاٹ ڈالنا۔ النباتَ: درختوں کو چھانٹنا۔ قَضَّبَ: بمعنی قَضَبَ و اقتضبَ: بمعنی قَضَبَ نیز اِقتَضَبَ ہ: کا خلاصہ لکھنا، کی تلخیص کرنا، کا خلاصہ بنانا، (تقریر) برجستہ کرنا (گانا) برجستہ گانا، فی البدیہہ نغمہ سرائی کرنا، آیات وغیرہ کا برجستہ یا فی البدیہہ پیش کرنا یا ان کا اقتباس پیش کرنا (تقریر) بیساختہ یا تیاری کے بغیر کرنا۔ قَضْب: خوردنی جڑی بوٹیاں۔ قَضِیب جمع قُضبان: کٹی ہوئی شاخ، ٹہنی، ڈالی، چھڑی، پچی، بید، ڈنڈا، سونٹا، لاٹھی، عصا، جادو کی چھڑی، (آتشدان کی) سلاخ، عضو تناسل، ریل کی پٹڑی، رہنما۔ قُضابۃ: کٹی ہوئی چیز، چھانٹی ہوئی چیز، درختوں کی کانٹ چھانٹ کے بعد جمع شدہ ٹکڑے۔ مِقضَب: چھانٹنے کی درانتی، چاقو یا بڑی قینچی۔ اقتضاب: تلخیص، خلاصہ، ملخص، مجموعہ، اقتباس، اختصار، برجستگی، بدیہہ گوئی ایجاز، جامعیت۔ مُقتَضَب: موجز، مختصر، مختصر اور جامع، برجستہ، فی البدیہہ، بیساختہ، تیاری کے بغیر۔ مُقتضبات: مختصر خبریں۔

قضع: اـ قَضَعَ ـَ قَضْعًا ہ: کو مغلوب کرنا۔ تَقَضَّعَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا، جدا جدا ہونا۔ اِنقَضَعَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا جدا جدا ہونا ـــ عنه: سے دور ہونا۔ القَضْعُ والتَقضِیعُ: پیٹ کا درد اور مروڑ۔ القُضاعُ بمعنی القَضْعُ ـ والقُضاعۃ: آٹے کی گرد، کھرچ کر صاف کی ہوئی دیوار کی جڑ۔

۲ـ القُضاعُ: چیتا۔ بن بلاؤ۔

۳ـ القَضْعَمُ: وہ بوڑھا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

قُضْع: قولنج، درد شکم، مروڑ۔ قُضاع: قولنج، مروڑ، درد شکم۔

قضف: اـ قَضُفَ ـُ قَضَفًا و قَضافًا و قَضافۃً: نحیف و لاغر ہونا صفت قَضِیفٌ ج قِضافٌ و قُضفانٌ و قُضَفاءُ ـ القَضَفُ: پتلے پتھر۔ القَضِیفۃُ من النساء: کم گوشت والی دبلی پتلی عورت جمع قضاف۔

۲ـ اِنقَضَفَ: ٹوٹنا۔ القِضفۃُ: ریت کا ٹکڑا جو بڑے حصے سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ القَضَفۃُ ج قَضَفٌ و قِضافٌ و قُضفانٌ و قِضفانٌ: ٹیلہ جو ایک پتھر کا معلوم ہو، زمین کا ٹکڑا جو ابھرا ہوا ہو اور کچھ لمبا ہو (ح) ایک

قضم: اـ قَضَمَ ـِ قَضْمًا الشیئَ: کو دانت کے اطراف سے کاٹنا اور کھانا۔ قَضِمَ ـَ قَضْمًا الشیئَ: دانت کے اطراف سے کاٹنا اور کھانا، کہا جاتا ہے۔ هُوَ یَقْضَمُ الدُّنیا قَضْمًا: جب وہ دنیا سے بے رغبتی کرے اور معمولی چیز پر راضی ہو جائے۔ قَضِمَ ـَ قَضَمًا تِ السِّنُّ: دانت کے اطراف کا ٹوٹنا ـــ الرجلُ: دانت کے ٹوٹے ہوئے اطراف والا ہونا۔ ـــ السیفُ: تلوار پرانی ہونے کی وجہ سے دھار خراب ہونا۔ اَقْضَمَ الدابۃَ: جانور کو جو کا چارہ دینا۔ القَضِمُ من الاسنان والرجال والسیوف: اطراف سے ٹوٹا ہوا دانت جس کے دانت کے اطراف ٹوٹے ہوئے ہوں، پرانی ہونے کی وجہ سے خراب دھار والی تلوار۔ القَضْمُ (مص): تلوار، القضیم کی جمع۔ القُضْمۃُ والقَضامُ والمِقْضَمُ: جو دانت کے اطراف سے کاٹا جائے، کہا جاتا ہے ماذُقْتُ قُضْمَۃً و قَضامًا و مِقضَمًا: یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔ القَضامِیُّ: کھانے کے لئے تر کر کے بھنے ہوئے چنے۔ القَضِمُ ج قَضَمٌ و قُضُمٌ و اَقْضِمۃٌ: جس کو دانت کے اطراف سے کاٹا جائے، ٹوٹی ہوئی دھار کی تلوار۔ والقَضِیمۃُ ج قَضَمٌ و قُضُمٌ و اَقْضِمۃٌ: جانوروں کے لئے جو۔

۲ـ قاضَمَ مُقاضمۃً: تھوڑا تھوڑا کر کے بیچنا یا خریدنا۔ اِقْضَمَ و اِسْتَقْضَمَ القومُ: قحط میں تھوڑا غلہ لینا۔ القُضّامُ ج قَضاضِمُ: کھجور کا لمبا درخت کہ جس کے پھل خشک اور کم ہو گئے ہوں۔

۳ـ القَضِیمُ ج قَضَمٌ و قُضُمٌ و اَقْضِمۃٌ: گھڑی۔ کاغذ ـ والقَضِیمۃُ ج قَضَمٌ و قُضُمٌ و اَقْضِمۃٌ: چاندی، چمڑے کا فرش جو مجرم کے نیچے بچھا دیتے ہیں تاکہ خون سے زمین خراب نہ ہو۔ چمڑا، سفید چمڑا جس پر لکھا کرتے تھے۔

قَضَمَ ـــ و قَضَمَ ـِ قَضْمًا ہ: کو کاٹنا، کترنا، قُضامۃ: نمک لگا کر بھونے ہوئے چنے، مثر قسم قسم کے اخروٹ، بادام، جوز، پستے وغیرہ، دانہ دنکا، چوگا، طعمہ الحیوانات القاضِمۃ: کترنے والے جانور۔

قضی: قَضٰی یَقْضِیْ قَضاءً حاجتَہٗ: ضرورت پوری کرنا اور اس سے فارغ ہونا ـــ الشیئَ: کو مضبوطی سے بنانا اور اس کا اندازہ کرنا ـــ وَطَرَہٗ: مراد کو پہنچنا۔ عَبرتَہٗ: تمام آنسو بہا دینا۔ الدَّینَ: قرض ادا کرنا کہا جاتا ہے قُضِیَ مِنْهُ العَجَبُ: بہت زیادہ تعجب کیا۔ لَا یُقْضٰی مِنْهُ العَجَبُ: یعنی تعجب کا حق ادا کرنا ممکن نہیں کیونکہ معاملہ بہت عظیم الشان

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہے۔ الصلوۃ: نماز ادا کرنا۔ الامر الیه: کو تک پہنچانا۔ العهدَ: کو نافذ کرنا۔ علیه عهدا: کو وصیت کرنا۔ الرجُلُ وقَضٰی نَحْبَهُ وقَضٰی اَجَلَهُ وقَضِیَ عَلَیْهِ: مرنا، کہا جاتا ہے ضربه فقضی علیه کو مار کر قتل کر ڈالا یا کو جان سے مار ڈالا۔ قَضّٰی تَقْضِیَةً: مرنا۔ — تَقْضِیَةً و قِضَاءً وَطَرَهُ: کی مراد بر آنا۔ — الامرَ: معاملے کا نفاذ کرنا۔ تَقَضّٰی وانْقَضٰی الشیئُ: فنا ہونا، ختم ہونا۔ تَقَاضٰی ہُ الدَّیْنَ وغیرَہُ و بالدَّیْن: سے قرض کا تقاضا کرنا اور وصول کرنا۔ اِقْتَضٰی اِقْتِضَاءً الحالُ کذا: ایسا چاہنا لازم کرنا۔ — ہ الدَّیْنَ وغیرَہُ: سے قرض وغیرہ کا مطالبہ کرنا اور لینا کہا جاتا ہے۔ اِفْعَلْ ما یَقْتَضِیْهِ کَرَمُكَ: وہ کرو جو تمہارے کرم کا تقاضا ہو۔ اِسْتَقْضٰی اِسْتِقْضَاءً فلانًا الدَّیْنَ: سے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کرنا۔ سَمٌّ قَاضٍ: زہر قاتل۔ القَاضِیَةُ: موت، کہا جاتا ہے۔ اَتَتْ عَلَیْهِ القَاضِیَةُ: یعنی اسے موت آئی۔ القَضٰی و القَضَاءُ ج اَقْضِیَةٌ: ادا القَضَاء اسم مبالغہ مضبوط زرہ۔ القَضِیُّ: موت کہا جاتا ہے۔ رَجُل قَضِیٌّ: جلد فیصلہ کرنیوالا مرد۔

۲۔ قَضٰی یَقْضِیْ قَضَاءً و قَضْیًا و قَضِیَّةً بینَ الخصمین: مقدمہ کے دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ — الامرَ لهُ او علیه: کے موافق یا مخالف معاملہ کا فیصلہ کرنا۔ اسے لازم کرنا۔ — الشیئَ: کو جتانا، بیان کرنا۔ قَضّٰی تَقْضِیَةً و قِضَاءً فلانًا: کو قاضی بنانا۔ قَاضٰی مُقَاضَاةً فلانًا الی الحاکم: کو فیصلہ کے لئے جج کے پاس لے جانا۔ — ہُ علیٰ مال: مال پر سے صلح کرنا۔ تَقَاضٰی المتخاصمان اِلَی الحاکم: دونوں کا جج کے پاس فیصلہ کے لئے جانا۔ اِقْتَضٰی اِقْتِضَاءً الامرُ الوجوبَ: صیغہ امر کا وجوب پر دلالت کرنا۔ اِسْتَقْضٰی اِسْتِقْضَاءً السلطانُ فلانًا علینا: کو پر قاضی بنانا۔ — ہ: کو فیصلہ کے لئے طلب کرنا۔ اُسْتُقْضِیَ فلانٌ: قاضی بنایا جانا۔ القَاضِیُ (فا) حاکم شرعی، جج۔ قَاضِی القُضَاةِ: قاضیوں کا رئیس۔ چیف جسٹس۔ القَاضِیَةُ: القاضی کا مونث۔ القَضٰی والقَضَاءُ ج اَقْضِیَةٌ: حکم۔ القَضِیَّةُ (مص) ج قَضَایَا، قَضٰی: کا اسم — عند المنطقیین: وہ قول جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ — المُسَلَّمَةُ: تسلیم شدہ فیصلہ۔

۳۔ تَقَضَّی البازی: باز کا ٹوٹ پڑنا۔ اس کی اصل تَقَضَّضَ ہے ضاد اخیرہ کو تخفیف کے لئے یاء سے بدل دیا گیا ہے۔

۴۔ القِضَةُ ج قِضٰی وقِضَات وقِضُونَ (ن): ایک ترش قسم کی گھاس۔

○ قَضَی اَجَلَهُ: فوت ہونا، مرنا، قضی العَجَبَ من: پر بڑا استعجاب ہونا، بہت ششدر ہونا، قَضٰی نَحْبَهُ: اپنی قسم، یا عہد پورا کرنا، مرنا۔ قَضٰی وَطَرَهُ: اپنا مقصد حاصل کرنا، خواہش پوری ہوتی دیکھنا۔ قُضِیَ الامرُ: معاملہ کا فیصلہ ہو گیا۔ قطعی فیصلہ کر لیا گیا۔ قُضِیَ امرُہ و قُضِیَ علیه: وہ ختم ہو گیا۔ قَضٰی: فیصلہ، عدالتی فیصلہ۔ قضاء: اختتام، خاتمہ، اخیر، تمام، تکمیل، تعمیل، خواہش، (آرزو کی) تسکین، ضرورت کی چیز مہیا کرنا، درخواست کے مطابق عمل، فرض یا قرضہ کی ادائیگی، وقت مدت گزارنا، تقدیر، مقدر، فیصلہ، عدالتی فیصلہ، فرمان، نفاذ قانون، انتظام، عدالت، عدلیہ، اصول، قانون، نظام عدالت، ججی، — علی: کو سزا کا حکم، کا قلع قمع، کا قتل، کو نا کام بنا دینا، جمع اَقْضِیَة: ضلع، صوبہ۔ قضاء اللّٰه: وفات، القضاء الشرعی: شریعت پر مبنی عدالتی اختیار، شرعی قانون، دارُ القضاء: عدالت محکمة القضاء الاداری: انتظامی عدالت القضاء والقدر: تقدیر۔ بالقضاء والقَدَر یا قضاءً و قَدَرًا: تقدیر سے حکم الٰہی سے۔ قُضِیَ القضاء: حکم الٰی پورا ہوا، موت اللہ تعالیٰ کی رضا سے واقع ہوئی۔ قضائی: عدالتی، انصاف کرنے سے متعلق، قانونی، عدالتوں سے متعلق، حارس قضائی جمع حُرّاس قضائیون: قانونی طور پر مقرر متولی یا ناظم، دیوالئے کا متولی، تصفیہ کرنے والا، قرقی کرنے والا قَضَوِیَّةُ الصلح: صلح کرانے والے جج کا اختیار قَضِیّة جمع قَضَایا: نالش، مقدمہ، (قانونی) کیس، قانونی قضیہ، معاملہ، قضیہ، مسئلہ، کلیہ (ریاضی) مسئلہ (ریاضی)۔ مُقَاضَاة: مقدمہ کی سماعت، اِنقضاء: گزرنا، خاتمہ، اختتام، (وقت، مدت کا) فرض کا انعدام۔ اقتضاء: ضرورت، احتیاج عند الاقتضاء: ضرورت پڑے تو، اگر ضروری ہو۔ قاضٍ: فیصلہ کن، جان لیوا، مہلک۔ جمع قُضاة: جسٹس، جج، مجسٹریٹ، قاضی جمع قَوَاضٍ: ضروریات، ہنگامی صورت حالات۔ سَمٌّ قاض: زہر قاتل۔ ضَرْبَة قاضیة: جان لیوا یا مہلک چوٹ، ضرب، گھونسا، مکا۔ — علی: کے خلاف فیصلہ کن ضرب۔ پچھاڑنے والی ضرب Knock out رای من قواضِی الذِّمَّة ان: کو اپنا فرض سمجھنا۔ قاضی البحث یا قاضی التحقیق: تفتیشی مجسٹریٹ قاضی الاحالة: مدعا علیہ کے استغاثہ پر مقدمہ کی سماعت کرنے والا جج، قاضی الصلح: صلح کرانے والا جج۔ مَقْضِیّ: فیصلہ کیا ہوا، ختم کیا ہوا، کیا ہوا، مکمل کیا ہوا، بجا لایا ہوا، پورا کیا ہوا، انجام دیا ہوا وغیرہ الامرُ المَقْضِیِ: جو بات ہو ہی چکی، اٹل بات مُتَقاضٍ جمع مُتَقَاضُون: فریق مقدمہ۔ متقاضیان: مقدمہ کے دو فریق مُتَقَاضِیّ: قانونی استغاثہ کی شرط پر مُقْتَضٰی: ضروری، مطلوبہ۔ جمع مُقْتَضَیَات: ضرورت، احتیاج، حاجت بِمُقْتَضٰی: کے مطابق، کے تحت، عند مقتضیات الاحوال: اگر حالات کا تقاضا ہو۔

قطّ: ۱۔ قَطَّ ـُ قَطًّا القلمَ ونحوَہُ: قلم پر قط لگانا۔ — البیطارُ حافرَ الدابة: سلوتری کا چوپایہ کے کھر تراشنا۔ اور ہموار کرنا قَطَّطَ الخَرَّاطُ الخشبةَ: خرادی کا لکڑی کو تراشنا اور ہموار کرنا۔ اِقْتَطَّ الشیئُ: منقطع ہونا۔ — القَلَمَ: قلم پر قط لگانا۔ — البیطارُ حافرَ الدابَّةِ: سلوتری کا چوپایہ کے کھر تراشنا اور ہموار کرنا۔ اِنْقَطَّ الشیئُ: کٹنا، منقطع ہونا۔ قَطْ حَسْبُ کے معنی میں آتا ہے جیسے قَطِی وقَطْكَ و قَطْ زَیْدٍ دِرْهَمٌ بمعنی حَسْبِی وحَسْبُكَ و حَسْبُ زَیْدٍ دِرْهَمٌ فرق یہ ہے کہ قط مبنی ہے اور حسب معرب اسم فعل ہو کر بمعنی یکفی بھی مستعمل ہے اس صورت میں نون وقایہ کے ساتھ بناء علی السکون کی حفاظت کیلئے قطنی کہا جاتا ہے، اگر تقلیل کا ارادہ ہو تو ساکن کر دیتے ہیں جیسے مَا عِنْدِیْ اِلَّا هٰذَا قَطْ. اور اگر ہمزہ وصل کے ساتھ ملے تو آخر کو کسرہ دیدیتے ہیں جیسے مَا عَمِلْتُ اِلَّا هٰذا قَطِ النَّهْرَ اور کبھی تحسین لفظ کے لئے اس کے شروع میں فاء داخل کرتے ہیں جیسے رَاَیْتُهُ مَرَّةً فَقَطْ یعنی میں نے اس کو صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا۔

قَطُّ: ظرف زمان ہے اور استغراق ماضی کے لئے آتا ہے اور نفی کے ساتھ مختص ہے جیسے مَا فَعَلْتُ هٰذَا قَطُّ اور کبھی قُطُ اور قُطْ: بھی کہا جاتا ہے۔ القِطُّ ج قُطُوطٌ: حصہ، چیک، حساب کا رجسٹر، رات کا ایک حصہ۔ قَطَاطِ: اسم فعل حَسْبُ کے معنی میں۔ القِطَاطُ ج اَقِطَّة: چوپایہ کے سم کا گھیرا، پہاڑ کا کنارہ، نمونہ کہ جس کو دیکھ کر کوئی چیز قطع کریں:— والقَطِیطَةُ ج قَطَائِطُ: غار کا بالائی کنارہ کہا جاتا ہے: جَاءَتِ الخَیْلُ قَطَائِطَ: گھوڑے گروہ در گروہ آئے۔ القَطَّاطُ: اسم مبالغہ، خراد کرنے والا۔ المِقَطُّ والمِقَطَّةُ: قط زن جس پر کاتب قلمیں بناتا ہے۔ المِقَطُّ: گھوڑے کے پہلو کی ہڈی کے سرے کا منتہا۔

۲۔ قَطَّ ـِ قَطًّا وقُطُوطًا وقُطَّ السِعْرُ: بھاؤ گراں ہونا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

صفت قَطٌّ و قَاطٌّ و قَاطِطٌ سِعْر قَاطٌّ و قَاطِطٌ ومَقْطُوطٌ: گراں (گراں بھاؤ، گراں نرخ)۔

۳۔ قَطَّ ــَ وقَطِطَ ـَ قَطَطًا و قَطَاطَةً الشَعَرُ: بال چھوٹے اور گھنگھریالے ہونا صفت قَطٌّ و قَطَط رَجُلٌ قَطٌّ و قَطَطٌ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا ج قَطُّوْنَ وقِطَاطٌ و اَقْطَاط وقَطَطُوْنَ. اِمْرَاَة قَطَّة وقَطَطٌ گھنگھریالے بالوں والی عورت۔ القِطَاطُ ج اَقِطَّةٌ بالوں کا گھنگھریالا پن۔ القَطَوْطَى چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے والا۔

۴۔ القِطُّ جمع قِطَاطٌ وقِطَطَةٌ واحد قِطَّةٌ (ح): بلّی۔ قِطُّ الزَبَادِ دیکھئے لفظ الزباد۔

۵۔ قَطْقَطَ قَطْقَطَةً ت الخحلة کجلہ کے پردہ کی آواز آنا۔ ـــ السحاب بادل کا اولے یا تھوڑی بارش برسانا القطقط اولے یا تھوڑی بارش۔

۶۔ نطنط الرجل فی الامر معاملہ کے سر پر سوار ہونا۔ ـــ فی البلاد. ملک میں جانا۔ ـــ الدلو الی البئر ڈول کا کنویں میں نیچے جانا

۷۔ تَقَطْقَطَ الرجُلُ: جلدی جلدی چلنا۔ القَطْقَاطُ تیز رو، تیز رفتار والا۔

ⓒ قَطُّ. کبھی نہیں، ہرگز نہیں بالکل نہیں، صیغہ ماضی کے انکار والے جملوں کے ساتھ، کبھی قَطَّاط: خرادیا۔ قُطَيْطَة. بلی کا بچہ۔ قِطَة: بلی۔

قطب: ۱۔ قَطَبَ ـِ قَطْبًا الشیئَ کو جمع کرنا، کاٹنا۔ ـــ الشرابَ: میں ملاوٹ کرنا ـــ الرجُلَ کو غضبناک کرنا ـــ الجوالقَ: گون کے دونوں گوشوں کو ملانا۔ ـــ الاناءَ: برتن بھرنا۔ القومُ: جمع ہونا۔ قَطَبَ قَطْبًا وقُطُوبًا الرجلُ: ترش روئی کرنا صفت۔ قَطِبٌ۔ قَطَّبَ الرجُلُ: ترش روئی کرنا ـــ الشرابَ: میں ملاوٹ کرنا۔ اَقْطَبَ القومُ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ ـــ الشرابَ: میں ملاوٹ کرنا۔ القَاطِبُ والقَطُوبُ ترش رو، شیر، کہا جاتا ہے۔ جَاءُوْا قَاطِبَةً یعنی سب آئے (قَاطِبَةً حالیت کی بناء پر منصوب ہے۔) القُطْبُ ج اَقْطَابٌ: چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے۔ القُطْبُ ج اَقْطَابٌ وقُطُوبٌ وقِطَبَةٌ مدار، کار، کہا جاتا ہے هُوَ قُطْبُ ذَالِكَ الاَمْرِ وہ معاملہ کا محور ہے وصَاحِبُ الجَيْشِ قُطْبُ رَحَى الحَرْبِ سالار لشکر جنگ کا مدار ہے، قوم کا سردار جو ان کے معاملات نبٹاتا ہے یا سلجھاتا ہے۔ فُلَانٌ قُطْبُ بَنِي فُلَانٍ فلاں شخص اپنے قبیلہ کا رہنما ہے (فک) فرقدین اور جدی کے درمیان ایک ستارہ کا نام جس سے قبلہ کی تعیین کرتے ہیں۔ یہ ستارہ ہمیشہ ایک ہی جگہ رہتا ہے اس لئے اسے قطب الرحی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ (ھ) متحرک کرہ پر ایک نقطہ ثابتہ۔ ـــ عند الجغرافیین زمین کے محور کا کنارہ اور وہ دو ہیں قطب شمالی اور قطب جنوبی۔ القُطْبَانِ السَّمَاوِيَّانِ (فلک، قطب شمالی اور جنوبی القَطْبُ والقِطْبُ والقُطُبُ ج اَقْطَابٌ: چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے۔ القُطْبَةُ ج قُطَبٌ. ہدف کا پیکان، چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے۔ ـــ عند الجغرافیین قطب یا زمین کے محور کا کنارہ۔ القِطَابُ: گریبان کے ملنے کی جگہ یا اس کا نچلا حصہ ملاوٹ۔ القُطَابَة: گوشت کا ٹکڑا۔ القَطِيْبُ ملاوٹ والا مشروب۔ ـــ والقَطِيْبَةُ اونٹنی اور بکری کا ملایا ہوا دودھ، کہا جاتا ہے۔ جَاءَ القَوْمُ بِقَطِيْبَتِهِمْ یعنی سب آئے۔ المَقْطُوبُ ملایا ہوا مشروب۔

۲۔ القَطْبُ کسی چیز کو لینے کے بعد باقی کو انکل سے بغیر وزن کے لینا، کہا جاتا ہے اَخَذَهُ قَطْبًا: اس نے اسے انکل سے بغیر وزن کے لے لیا۔ القُطْبَةُ ج قُطَبٌ (ن): ایک قسم کی گھاس القِطْبِی (ن): ایک قسم کی نباتات جس سے رسی بنائی جاتی ہے۔ القُطْبَانُ (ن): ایک قسم کی نباتات۔

ⓒ قَطَبَ ـِ قَطْبًا و قُطُوبًا: بھویں سکیڑنا (ـــ حاجبَيْهِ بھویں سکیڑنا) تیوری چڑھانا، گھورنا، قہر آلود نگاہیں ڈالنا، تیز تیز نظروں سے دیکھنا۔ ـــ جبينَه: تیوری چڑھانا۔ قَطَّبَ. بمعنی بالا، نیز قَطَّبَ ه: کو سینا۔ تَقَطَّبَ: چہرہ تاریک ہو جانا۔ استقطب ه: میں دو متضاد یا برعکس رجحانات پیدا کرنا۔ قُطْب جمع اَقْطَاب. محور، دھرا، سرا زمین کے محور کا کوئی ایک سرا، مقناطیس کا قطب، چول، مدار، محور، مرکزی نقطہ، بنیادی نقطہ، رہنما، قائد، رہبر، سب سے بڑی یا اہم شخصیت، مشہور شخصیت (عموماً جمع میں مستعمل ہے) قطب الرَحَى مدار، محور (کسی چیز کا) القطب الشمالی قطب شمالی، القطب الجنوبی قطب جنوبی، قطب سالب. برقی خانے کا منفی سرا۔ قطب منفی، منفی برقیرہ قطب مُوجَب: برقی خانہ کا مثبت سرا، مثبت قطب، مثبت برقیرہ۔ قُطْبِی: قُطْبِی الشفق القطبی قطبی روشنی۔ قُطْبَة: ٹانکا، بخیہ۔ قَطُوب تیوری چڑھانے والا، چیں بجبیں، گھورنے والا، بڑے تیوروں سے دیکھنے والا، قہر آلود نگاہیں ڈالنے والا، تیز تیز نظروں سے دیکھنے والا۔ استقطاب متضاد رجحانات قاطبَةً سب بلا استثناء، سب، ہر ایک، انفرادی اور اجتماعی طور پر۔

قطر ۱۔ قطر قَطْرًا الـ ... [illegible]

قَطَرَ قَطْرًا وقُطُوْرًا و قَطَرَانًا الماءُ: پانی کا بہنا اور قطرہ قطرہ ٹپکنا۔ ـــ الصَمغُ من الشجرة درخت سے گوند نکلنا۔ قَطَّرَ الماءَ: کو ایک ایک قطرہ ٹپکانا۔ ـــ الدواءَ دوا کا پانی انبیق سے کشید کرنا۔ ـــ الثوبَ کپڑے کو عود کی دھونی دینا۔ اَقْطَرَ الماءَ: کو ایک ایک قطرہ ٹپکانا۔ ـــ الماءُ: پانی کا بہنا۔ ـــ الشیئُ کے ٹپکنے کا وقت قریب ہونا تَقَطَّرَ: عود کی دھونی دیا ہوا ہونا۔ ـــ الماءُ: پانی کا قطرہ قطرہ بہنا۔ تَقَاطَرَ الماءُ. پانی کا بہنا اور ایک ایک قطرہ گرنا۔ اِسْتَقْطَرَ الماءَ وغيرَهُ: پانی وغیرہ ٹپکانے کی خواہش کرنا اور اس میں مشغول ہونا۔ القَاطِرُ (فا). ٹپکنے والا گوند، (ن) دم الاخوین (بوٹی ہے) القُطْرُ والقُطُرُ. عود، اگر۔ جس کا دھواں لیا جاتا ہے۔ مثلاً اگربتی وغیرہ۔ القَطْرُ (مص) ج قِطَارٌ بارش، کسی بہنے والی چیز کا قطرہ، ٹچک۔ القَطْرَةُ ج قَطَرَاتٌ. قطر سے اسم مرہ، نقطہ، کہا جاتا ہے رَمَاهُ اللّٰهُ بِقَطْرَةٍ: اللہ اس پر مصیبت نازل کرے۔ القُطَارُ: زہر جو کثرت کی وجہ سے ٹپکے۔ وَالقَطُوْرُ والمِقْطَارُ: بہت برسنے والا بادل۔ القُطَارَةُ: قطرہ، تھوڑا پانی۔ القَطِرَانُ والقِطْرَانُ والقَطِرَانُ: (ک) کولتار کی مانند ایک چیز جو درختوں سے بنایا جاتا ہے مثلاً صنوبر اور قیدار القَطَارِيُّ والقُطَارِيَّةُ: سانپ۔ المِقْطَرُ والمِقْطَرَةُ ج مَقَاطِرُ: دھونی دینے کا انگارہ دان المَقْطُوْرُ (مفع): قطران ملا ہوا۔ ـــ اَرْضٌ مَقْطُوْرَةٌ: بارش شدہ زمین۔

۲۔ قَطَرَ ـُ قَطْرًا الابلَ: اونٹوں کو ایک قطار میں کرنا کہا جاتا ہے۔ قَطَرَ البَعِيْرَ اِلَى البَعِيْرِ. ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کے قریب کر دیا۔ ـــ الثوبَ کپڑے کو سینا، کہا جاتا ہے۔ مَا اَدْرِيْ مَنْ قَطَرَهُ اَوْمَنْ قَطَرَ بِهٖ مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کون لے گیا (اور یہ نفی کے ساتھ خاص ہے)۔ قَطَرَ قَطْرًا الرجُلُ دانہ وغیرہ کا وزن لے لینا اور باقی ماندہ اشیاء کو اسی حساب سے اندازے سے بغیر وزن کے لینا۔ قَطَّرَ واَقْطَرَ الابلَ اونٹوں کو ایک قطار میں کرنا۔ تَقَاطَرَ القومُ گروہ گروہ کا پے در پے آنا۔ القَاطِرَةُ: القاطر کا مونث۔ انجن (ریل گاڑی کا) القَطْرُ غلے وغیرہ کا وزن لے لینا اور باقی کو اسی حساب سے بلا وزن کے انکل لے لینا۔ القِطَارُ من الابل: ج قُطُرٌ و قُطُرَاتٌ: اونٹوں کی قطار۔ ٹرین، برقی ٹرین کہا جاتا ہے قطار سكة الحديد والقطار الحديدی ٹرین القِطَارَةُ اونٹوں کو ایک قطار میں ایک کے پیچھے ایک باندھنا، کہا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جاتا ہے۔مَرَّتْ بِہٖ قِطَارَةُ جِمَالٍ: اس کے پاس سے اونٹوں کی قطار گزری۔المِقْطَرَةُ: وہ لکڑی جس کے سوراخوں میں قیدیوں کے پاؤں داخل کئے جاتے ہیں المُقَاطَرَةُ: غلے وغیرہ کو وزن کر کے لینا اور کو اسی حساب سے انکل سے لینا، کہا جاتا ہے۔ اَكْرَاهُ مُقَاطَرَةً: یعنی آمد ورفت کیلئے کرایہ کیا۔

۳۔قَطَرَ ـُ قَطْرًا ہٗ: کو سخت پچھاڑنا۔قَطَرَ قُطُورًا فی الارض: زمین میں جانا۔اَقْطَرَ ہٗ: کو ایک جانب گرا دینا۔تَقَطَّرَ الرجلُ: اپنے آپ کو اوپر سے پھینک دینا، گرنا۔۔۔ بہٖ: کو ایک جانب گرا دینا۔تَقَاطَرَا: کناروں کا مقابل ہونا۔القُطْرُ ج اَقْطَارٌ: اقلیم، گوشہ، جانب (ھ): وہ خط مستقیم جو دائرہ کو تقسیم کر دے اور مرکز سے گزر کر محیط پر ختم ہو۔ فی المضلّع وفی المتوازی السطوح: (ھ): وہ خط مستقیم جو غیر متواتر سروں کو ملائے۔قطر الشمس الظاهر (فلك): ایسا زاویہ جس پر سورج اس زمینی مرکز سے نظر آتا ہے اَقْطَارُ الدنیا: دنیا کی چاروں جہتیں۔

۴۔اَقْطَرَ النبتُ: نباتات خشک ہونے لگنا۔اِقْطَرَّ واِقْطَارَّ: خشک ہونے لگنا۔

۵۔تَقَطَّرَ عن كذا: سے پیچھے رہنا۔

۶۔اِقْطَرَّ و اِقْطَارَّ الرجلُ: غضب ناک ہونا۔

۷۔اِقْطَرَّ واِقْطَارَّتِ الناقةُ: اونٹنی کا دم اور سر اٹھانا۔

۸۔القِطْرُ: تانبے کی ایک قسم، پگھلا ہوا تانبا، ایک قسم کی چادر۔القُطْرَةُ والقُطَيْرَةُ: معمولی چیز، گھٹیا چیز۔

۹۔قَطْرَبَ: جلدی کرنا۔۔ ہٗ: کو پچھاڑنا۔تَقَطْرَبَ: سر کو حرکت دینا۔قطرب کے مشابہ ہونا۔القُطْرُبُ: پچھاڑا ہوا۔(ح): ایک کیڑا جو ہر وقت حرکت کرتا ہے یا جگنو۔(ح): بال گرا ہوا بھیڑیا۔(خ): بھوت، چھوٹا کتا، چھوٹے جن، چور، جاہل، بے وقوف، بزدل۔(طب): مالیخولیا کی ایک قسم (ن): ایک خاردار پودہ جو گزرنے والے سے چمٹ جاتا ہے۔

۱۰۔قَطْرَنَ البعیرَ: اونٹ پر قطران ملنا۔القَطْرَانُ والقِطْرَانُ والقَطِرَانُ (ك): کولتار کی مانند ایک چیز جسے بعض درختوں سے بنایا جاتا ہے۔

○ قَطَرَ ـُ قَطْرًا و قَطَرَانًا: ٹپکنا، رسنا۔قَطَّرَ ہٗ: کو ٹپکانا، قطروں میں گرانا یا بہانا، قطروں میں انڈیلنا یا ڈالنا، فلٹر کرنا، کو چھاننا یا اس کی تقطیر کرنا، کو باریک، عمدہ یا خالص بنانا، الائش سے صاف کرنا، کشید کرنا، کا عرق کھینچنا، کو مقطر کرنا، اونٹوں کو آگے پیچھے ایک قطار میں ڈوری سے باندھ کر کھڑا کرنا، اونٹوں کی قطار بنانا، گاڑیاں جوڑنا، بحری جہاز کو زنجیر کی مدد سے کھینچنا، ٹگ بوٹ کے ذریعے کشتی کھینچنا۔تَقَطَّرَ: قطروں میں گرنا یا بہنا، ٹپکنا، رسنا، قطرہ قطرہ یا تھوڑی مقدار میں گرنا یا بہنا۔۔۔ الی: میں رچ بس جانا، چھوٹے شگافوں یا سوراخوں میں سے گزرنا۔تَقَاطَرَ اِلی: کسی کے پاس ہجوم کرنا، جوق در جوق چلے آنا، ہجوم کی صورت اختیار کرنا۔۔۔ علی: کسی جگہ میں ہجوم کرنا، جوق در جوق چلے آنا، ریوڑ کی صورت میں اکٹھا ہونا۔اِسْتَقْطَرَ ہٗ: کو ٹپکانا، گرانا، کشید کرنا، مقطر کرنا، تقطیر کے ذریعے نکالنا۔

قَطْرٌ: ٹپکنا، رسنا، ٹپکا۔قَطْرَہ واحد جمع قِطَار: قطرے، چھوٹے چھوٹے اجزا یا ٹکڑے، بارش۔۔۔: شربت۔قَطْر جمع قُطُورات: ٹرین (ریل گاڑی کی)۔قَطَرجی جمع قَطَرجیة: کانٹا بدلنے والا، ریل پٹڑیوں کے کانٹے بدلنے والا۔قُطْر جمع اَقْطَار: خطہ، علاقہ، ضلع، سیکشن، زمین کا قطعہ، منطقہ، ملک، (دائرہ کا) قطر، وتر، بندوق وغیرہ کی نالی کا قطر۔القُطْرُ المصری: مصر۔نِصفُ قُطْرِ الدائرة: دائرہ کا نصف قطر۔اربعةُ اقطار الدنیا: چار دانگ عالم۔الروعة التی تاخذنی من جمیع اقطاری: وجد جو مجھے مکمل طور پر شیفتہ رکھتا ہے۔ جو میرے دل میں پوری طرح سرایت کر جاتا ہے۔قُطْرِی: علاقائی، ملکی، قطری۔قُطَيْرَة: چھوٹی بوند، چھوٹا، جز یا ٹکڑا۔قِطار جمع قِطارات و قُطُرات: اونٹوں کی قطار، ٹرین (ریلوے کی) ریل روڈ، سپاہیوں کی ایک قطار۔قِطارُ البضاعة: مال گاڑی۔قِطار حدیدی: ریلوے ٹرین۔قطار خاص (خصوصی او مخصوص): سپیشل ٹرین۔قطار الركاب: پسنجر ٹرین، مسافر گاڑی۔قطار سبّاق: ایکسپریس ٹرین، تیز رو ٹرین، قطار سریع: ایکسپریس ٹرین۔قطارٌ وقّاف: لوکل ٹرین۔قَطّارَہ: ڈراپر، قطرہ ریز، قطرہ ریز ٹیوب، رقیق اشیاء کو ناپنے یا منتقل کرنے اور سوراخ دار سرے کی درجہ بند نلی۔قَطِران: تارکول، گندہ بروزہ، قیر۔مِقْطَر جمع مَقَاطِر: عوددان اگردان، بخوردان، عود سوز۔مِقْطَرَة جمع مَقَاطِر: عوددان، اگردان، بخوردان، عودسوز۔ شکنجہ (سزا دینے کا ایک آلہ)۔قَاطِرَة جمع قاطرات: ریل کا انجن، ڈیزل انجن سے چلنے والی پہیے دار گاڑی، ریل کار۔مَقْطُورات: ٹریلر، ٹرک ٹریلر (جمع)۔مُقَطَّرَات: سپرٹ (الکحل میں کسی بنیادی یا اڑ جانے والی شئے کا تیار کیا ہوا محلول، سپرٹ کے محلول۔

قَطْرَمیز: شیشے کی بڑی بوتل یا مرتبان۔قَطْرَنَ ہٗ: کو کولتار سے لتھیڑنا، کو کولتار سے لیپنا۔

قطع: قَطَعَ ـَ قَطْعًا ومَقْطَعًا و تِقِطَّاعًا الشیئَ: کو کاٹنا، جدا کرنا۔۔۔ الصلوٰةَ: کو باطل کرنا۔۔۔ فی القول: یقین کرنا کہا جاتا ہے۔اِنِّیْ اَقْطَعُ بِذَالِكَ قَطْعًا: میں اسے یقین سے کہتا ہوں۔۔ ہٗ عن حقِّهٖ: کو سے منع کر دینا۔۔۔ الطریق علی السالکین: چلنے والوں پر راستہ بند کرنا اور اسے خوفناک بنانا۔

قَطَعَ قَطْعًا و قُطُوْعًا النهرَ: نہر عبور کرنا۔۔۔ لسانَہٗ: احسان کر کے کی زبان بندی کرنا۔۔ ہٗ بالحجة: کو دلیل سے سرزنش کرنا۔۔ ہٗ بالقطیع او السوط: کو چھڑی یا کوڑے سے مارنا۔قَطَعَ قَطْعًا الحوضَ: حوض کو آدھے تک بھر کر پانی روک دینا۔۔ فلانٌ الحبلَ او بحبلٍ: اپنے آپ رسی سے گلا گھونٹنا۔۔۔ عنقَ دابته: کو بیچنا۔۔ لہ قطعةً من المال: کو دینے کے لئے مال کا ایک حصہ جدا کرنا۔قَطَعَ قَطْعَةَ الصدیقِ: دوست کو چھوڑ دینا۔۔۔ قَطْعًا و قَطِيْعَةً رَحِمَہٗ: رشتہ داروں سے جدائی اختیار کرنا۔۔۔ قَطِيْعَةً السیّدُ علی عبده: مالک کا اپنے غلام پر ٹیکس عائد کرنا، کہا جاتا ہے۔قطعنی الثوبُ: کپڑا میرے قد کے لئے کافی ہے۔۔ قُطُوْعًا وقِطَاعًا وقَطَاعًا تِ الطیرُ: پرندوں کا ٹھنڈے ممالک سے گرم ممالک کی طرف جانا صفت۔قَوَاطِعُ ذَوَاهب او رَوَاجع

قَطَعَ۔۔ قُطُوْعًا وقِطَاعًا و قَطَاعًا ماءُ البئر: کنویں کا پانی ختم ہونا یا کم ہونا۔قَطِعَ ـَ قَطَعًا وقُطْعًا وقَطْعَةً وقُطَاعًا ت یدُہٗ: مرض کی وجہ سے یا کاٹنے سے کا ہاتھ جدا ہونا۔قَطُعَ ـُ قَطَاعَةً: کلام پر قادر نہ ہونا۔۔۔ لسانُہٗ: زبان کی تیزی کا جاتا رہنا۔

قُطِعَ النفسُ: سانس کٹ جانا۔۔۔ الرجُلُ: عاجز ہونا۔ یا ناامید ہونا۔۔۔ بہٖ: آرزو پوری ہونے سے پہلے روکا جانا۔ صفت مقطوع بہٖ۔ قَطَّعَ الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔۔ الخمرَ بالماءِ: شراب میں پانی ملانا۔۔۔ الفرسُ الخیلَ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں پر سبقت کرنا۔۔ الفرسُ الجریَ: نشاط کی وجہ سے قسم قسم کی چال چلنا۔۔۔ اللّٰهُ علیهِ العذابَ: کو گوناں گوں عذاب دینا۔۔۔ الشعرَ: شعر کی تقطیع کرنا، کہا جاتا ہے۔قَطَّعَنِی الثّوبُ: کپڑا میرے قد کے لئے کافی تھا۔هٰذا الثّوبُ يُقَطِّعُكَ قَمِيْصًا: یہ کپڑا تمہارے کرتے کے لئے کافی ہے، کہا جاتا ہے۔

قُطِّعَ فِیْ بَطْنِهٖ: اس کے پیٹ میں مروڑ ہوا۔قَاطَعَ مُقَاطَعَةً ہٗ: سے قطع تعلق کرنا۔ اسی سے ہے مُقاطعة بلدٍ لحاصلات و منتجات بلد آخر و لکل معاملة معه: ایک ملک کا دوسرے ملک کی پیداوار، مصنوعات اور اس کے ساتھ ہر قسم کے کاروبار کا بائیکاٹ کرنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فلان فلانا بسیفیهما: ایک دوسرے کو تلوار دکھلانا کہ کس کی تلوار زیادہ کاٹ دار ہے۔ الاجیرَ علی کذا و کذا من الاجر او العمل: سے اجرت پر کام طے کرنا۔ قاطعوا لحومهم بالسیف: ایک دوسرے کے گوشت کو کاٹنا۔ اَقْطَعَ فلانا: کو نہر عبور کرانا۔ ــت الدجاجة: مرغی کا انڈے دینے سے رک جانا۔ ــ القومَ: قوم سے بارش کا منقطع ہو جانا۔ ــ الرجُلُ: لاجواب ہونا۔ ــهُ بالحجة: کو دلیل سے خاموش کر دینا۔ ــ عن اهله: اپنے اہل سے جدا ہونا۔ ــ ماءُ البئر: کنویں کا پانی ختم ہونا۔ ــ السماءُ بموضع کذا: کسی جگہ بارش رک جانا۔ ــهُ الحطبَ: کو لکڑی کاٹنے کی اجازت دینا۔ ــ الامیرُ الجند البلد: امیر کا فوجیوں کو کسی علاقہ کی پیداوار بطور رزق بنا دینا۔ قطعت النبیُّ: سے منقطع ہونا، کہا جاتا ہے اَقْطَعَنِی الثوبُ: کپڑا میری قامت کے لئے کافی ہے۔ تَقَطَّعَ: کٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ــ الظلُّ: سایہ سمٹنا، کم ہونا، ابتدائے دن میں سایہ لمبا ہوتا ہے اور جوں جوں آفتاب بلند ہوتا جاتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اور سمٹتا جاتا ہے۔ تَقَطَّعُوا بَیْنَهُمْ اَمْرَهُمْ: اپنے درمیان معاملہ میں تفریق کر لینا، کہا جاتا ہے تَقَطَّعَتْ عَلٰی هٰذَا الجَوَادِ اَعْنَاقُ الخَیْلِ: یعنی اس گھوڑے سے گھوڑوں کی گردنیں نہیں ملیں۔ تَقَاطَعَ الشیئُ: جدا جدا ہونا۔ تَقَاطَعَا: ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا۔ اِقْتَطَعَ من المال قطعةً: سے کچھ لینا۔ ــ مالَ فلانٍ: فلاں کے مال کو اپنے لئے لینا۔ ــ ما فی الاناء: برتن کا سب کچھ لے لینا۔ اُنْقُطِعَ: کا وقت ختم ہونا، کہا جاتا ہے اُنْقُطِعَ الْحَرُّ اَوِ الْبَرْدُ: گرمی یا سردی کا وقت جاتا رہا۔ ــ الشیئُ: جدا ہونا۔ ــ الغیثُ: بارش کا رکنا۔ ــ النهرُ: نہر کا خشک ہونا یا روک دیا جانا۔ ــ اللبنُ: دودھ میں پانی کا حصہ خشک ہو جانا۔ ــ ماءُ البئر: کنویں کا پانی ختم ہونا۔ ــ لسانُهُ: زبان کی تیزی کا جاتا رہنا۔ ــ الکلامُ: کلام کا رک جانا۔ ــ السیفُ: تلوار کا ٹوٹنا۔ ــ الی فلان: سے خاص تعلق رکھنا۔ اُنْقُطِعَ بالمسافر: مسافر کی سواری کے جانور کا ہلاک ہونا یا اس کا زاد راہ کا ختم ہونا اور یوں سفر رک جانا۔ صفت مُنْقَطَعٌ بہ۔ اِسْتَقْطَعَهُ بلدًا او ثوبًا: سے جاگیر دینے کو کہنا، کپڑا قطع کرنے کو کہنا۔ اِقْطَوْطَعَت الطیرُ: پرندوں کا سرد سے گرم ممالک کی طرف جانا۔ القَاطِعُ: کاٹنے کا آلہ۔ نمونہ جس پر کپڑا وغیرہ قطع کیا جائے، (کہا جاتا ہے قُطِعَ

الاَدِیْمُ عَلَی الْقَاطِعِ: چمڑا مطلق نمونہ پر قطع کیا گیا، روکنے والا۔ الدَّوَاءُ الْقَاطِعُ: دوا جس کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ الطعامُ القاطعُ عند النصاری: ایسا کھانا جس میں نہ تو خشکی کے جانور کا گوشت ہو اور نہ ان میں سے کسی جانور کا دودھ ہو، اور ان کے نزدیک قاطع اسے کہتے ہیں جو گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتا ہے۔ سیفٌ قاطعٌ: قاطع تلوار۔ لبنٌ قاطعٌ: کھٹا دودھ۔ برهانٌ قاطعٌ: یقین بخش اور زوردار دلیل۔ ــ قاطع التیار: بوقت ضرورت برقی رو منقطع کرنے کا آلہ۔ قاطعُ النهر عند العامة: نہر کا دوسرا کنارہ۔ قاطع الطریق ج قَطَعٌ وقُطَّاعٌ: ڈاکو، چور۔ القَاطِعَةُ ج قَوَاطِعُ: القاطع کا مونث۔ طَیْرٌ قَوَاطِعُ: گرمی اور سردی میں ایک جگہ نہ رہنے والے پرندے۔ القَاطِعِیَّةُ (ت): استعمال سے ختم ہو جانے والے غلہ اور سامان وغیرہ کی مقدار۔ القُطْعُ: سانس رکنا۔ گرمی وغیرہ کی وجہ سے کنویں کے پانی کا انقطاع۔ پیٹ کا درد اور مروڑ۔ القَطْعُ (مص): بعض اعضاء جسم کی علیحدگی کہا جاتا ہے الاَمْرُ وَاقِعٌ قَطْعًا: یہ کام قطعی ہے۔ القُطُوعُ المخروطیة (ہ): اس کا واحد قطع ہے۔ گول مخروطی سطح کے ٹکڑے۔ القِطْعُ ج اَقْطَاعٌ واَقْطُعٌ وقِطَاعٌ: نیزے کا چوڑا اور چھوٹا پھل، درخت کا کاٹا ہوا ٹکڑا۔ ــ ج قُطُوعٌ واَقْطَاعٌ: رات کا ایک ٹکڑا، سوار کے نیچے بچھانے کا ٹکڑا، ایک قسم کا منقش کپڑا، کہا جاتا ہے ثَوْبٌ قِطَعٌ اَوْ اَقْطَاعٌ: یعنی کٹا ہوا کپڑا۔ القَطْعُ فی الفرس: گھوڑے کی بعض رگوں کا کٹنا۔ القُطْعُ والقُطَعَةُ: رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ القِطَعُ: دراہم۔ القَطِعُ: جس کی آواز بند ہو جائے۔ القُطْعَةُ: گرمی وغیرہ کی وجہ سے کنویں کے پانی کا انقطاع۔ ــ ج قُطَعٌ وقُطُعَاتٌ: کاٹا ہوا ٹکڑا، کاٹنے کی جگہ، زمین کا ٹکڑا جو کسی کو دینے کے لئے جدا کیا جائے، کٹے ہوئے ہاتھ کا بقیہ حصہ، سفید آٹا، سفید آٹے کا بھوسہ، کتاب وغیرہ کی فصل۔ قُطُعَاتُ الشَّجَرِ وقُطُعَاتُهَا: درخت کے کٹے ہوئے حصوں کی گانٹھوں کے اطراف جنہیں کاٹنے پر وہ دوبارہ نکل آئیں۔ القِطْعَةُ ج قِطَعٌ: چیز کا حصہ۔ ــ من الشِعْرِ: دس یا سات یا اس سے کم اشعار کی نظم۔ ــ قطعة الدائرة (ہ): دائرہ کی قوس اور اس کے وتر کے درمیان محصور سطح۔ القَطَعَةُ ج قَطَعٌ وقَطَعَاتٌ: کاٹنے کی جگہ، کٹے ہوئے ہاتھ کا بقیہ۔ قَطَعَاتُ الشَّجَرِ: درخت کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کی گانٹھوں کے اطراف جنہیں کاٹا جائے تو دوبارہ نکل

آتے ہیں۔ القِطَاعُ: رات کی پہلی تہائی، خصوصی قائد کی زیر نگرانی قلعہ، دراہم۔ ج قِطَعَةٌ: کاٹنے کا آلہ۔ القَطَّاعُ: اسم مبالغہ، عمارتی پتھر کاٹنے والا۔ القُطَاعَةُ: کاٹنے میں جو گر جائے، کاٹا ہوا ٹکڑا، لقمہ جس میں سے آدھا کھا لیا جائے اور آدھا رہنے دیا جائے۔ القِطَاعَةُ فی اصطلاح عامة النصاری: گوشت اور بعض کھانے کی چیزوں سے بعض مخصوص دنوں میں پرہیز۔ القَطُوعُ: بہت کاٹنے والا۔ ــ من النوق: اونٹنی جس کا دودھ جلدی سے ختم ہو جائے۔ امْرَاَةٌ قَطُوعٌ: کھڑے ہونے میں سست عورت۔ القَطِیعُ: پہلی تہائی رات۔ ــ ج قُطْعَانٌ و قِطَاعٌ واَقْطَاعٌ جج اَقَاطِیعُ: بکریوں اور چوپایوں وغیرہ کا گلہ۔ ــ ج قُطْعَانٌ و قِطَاعٌ واَقْطِعَةٌ واَقْطُعٌ و اَقَاطِعُ و قُطُعٌ وقُطُعَاتٌ: چھڑی جس سے تیر بنایا جائے۔ درخت یا ٹہنی سے جو کاٹا جائے۔ ــ ج قُطَعَاءُ واَقْطِعَاءُ: نظیر، مثیل جیسے هُوَ قَطِیعُهُ: وہ خلقت اور قد میں اس کے مشابہ ہے۔ رَجُلٌ قَطِیعٌ: مونث قَطِیعٌ: سانس پھولا ہوا مرد، چھڑی جس کے کنارے کاٹے ہوئے ہوں کہا جاتا ہے هُوَ قَطِیعُ الْقِیَامِ: وہ بوجہ ضعف یا فربہی کے اٹھنے سے عاجز ہے۔ اِمْرَاَةٌ قَطِیعٌ: کھڑے ہونے میں سست عورت کہا جاتا ہے اِمْرَاَةٌ قَطِیعُ الکَلَامِ: کم بولنے والی عورت۔ القَطِیعَةُ ج قَطَائِعُ: جدائی، دو علاقوں کے درمیان قطع تعلقی، وظیفہ، ٹیکس، جاگیر، کہا جاتا ہے۔ اِتَّقُوا الْقُطَیْعَاءُ: قطع تعلقات سے بچو۔ الاَقْطَعُ مونث قَطْعَاءُ ج قُطْعٌ وقُطْعَانٌ: کٹے ہوئے ہاتھ والا، بہرا۔ رَحِمٌ قَطْعَاءُ: قطع تعلقات۔ الاِقْطَاعَةُ ج اِقْطَاعَاتٌ: فوجیوں کو دی ہوئی جاگیر۔ الاُقْطُوعَةُ: قطع تعلقات کی علامت کے طور پر وہ چیز جو ایک لڑکی دوسری کو بھیجے۔ التَقْطِیعُ (مص) ج تَقَاطِیعُ: پیٹ میں مروڑ۔ تَقْطِیعُ الرَّجُلِ: قد و قامت۔ المُقْطِعُ: جس کی حجت منقطع ہو گئی ہو۔ المُقْطَعُ: اجنبی، جس کا نام دیوان وظائف میں نہ ہو یا وہ شخص جس کے ہم عصروں کو ملے اور وہ محروم رہے۔ مُقْطَعُ النهر: دریا کی پایاب جگہ۔ المَقْطَعُ ج مَقَاطِعُ: کاٹنے یا کٹنے کی جگہ، حرکت دینے والا حرف یا دو حرف جس میں سے دوسرا ساکن ہو، کہا جاتا ہے شَرَابٌ لَذِیْذُ المَقْطَعِ: پینے کی چیز جس کا آخر خوشگوار ہو۔ مَقْطَعُ الحَقِّ: جس سے باطل منقطع ہو جائے۔ مَقْطَعُ الحَرْفِ: حرف کا مخرج یعنی حلق، زبان یا دونوں ہونٹ۔ مَقَاطِعُ الاَنْهَارِ: نہروں میں جہاں

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

گزر سکیں۔ ــــ الکلام: وقف کرنے کے مواقع۔
المِقطَعُ: نمونہ جس پر چمڑا وغیرہ کاٹا جائے، کاٹنے کا
آلہ۔ سَیفٌ مِقطَعٌ: شمشیر براں۔ المِقطَاع:
بھائی چارہ پر قائم نہ رہنے والا۔ بِئرٌ مِقطَاعٌ: کنواں
جس کا پانی جلدی نیچے اتر جائے۔ مِقطَاعُ الکَلَام:
وہ شخص جو لوگوں کو لاجواب کر دینے کا عادی ہو۔ قطع
کلامی کا عادی۔ المَقطَعَةُ: کاٹنے کی جگہ اور کاٹنے کا
سبب، کہا جاتا ہے۔ الھَجرُ مَقطَعَةٌ لِلوُدِّ۔ یعنی
جدائی دوستی کے قطع کا سبب ہے۔ المُقَطَّعَةُ و
المُقَطَّعَاتُ: چھوٹے کپڑے اور یہ اسم جنس ہے اس
کے لئے مفرد نہیں بلکہ سارے چھوٹے چھوٹے کپڑوں
کو مُقَطَّعَاتٌ اور مُقَطَّعَةٌ کہتے ہیں۔ الثیاب
المقطعة عند العامة: چیتھڑے۔ المُقَطَّعَاتُ
من الشِعر: چھوٹے اشعار یا رجز۔
مُقَطَّعَاتُ الشیء: کسی چیز کے وہ طریقے جن کی طرف
اس کی تحلیل و ترکیب ہو۔ المُتَقَطِّعُ: (فا) پست قد۔
غُرَّۃٌ متقطعة: پیشانی کی سفیدی جو نتھنوں سے بلند ہو
کر آنکھوں تک پہنچے۔ الحمّی المتقطعة: (طب)
باری کا بخار۔ المُنقَطِعُ: (فا) کہا جاتا ہے: ھُوَ
مُنقَطِعُ العِقَالِ فِی الشَّرِّ: یعنی کوئی اس کو روکنے والا
نہیں، اور کہا جاتا ہے۔ ھُوَ مُنقَطِعُ القَرِینِ: وہ بے
نظیر ہے۔ المُنقَطِعُونَ عند النصاری: وہ فوت شدہ
لوگ جن کے لئے دعا کرنے والا یا ان کے گناہوں کا
کفارہ کرنے والا نہ ہو۔ المُنقَطِعُ من الوادی و
نحوہ: وادی وغیرہ کا آخری سرا۔

○ قَطَعَ۔ قَطعًا ھ درخت گرانا، تعلقات منقطع کرنا،۔
ہ: کے ساتھ دوستی ختم کرنا، کا دل توڑنا ــــ ہ/ ھ: کی
قطع کلامی کرنا، بات کاٹنا، بات میں مداخلت کرنا۔ ــــ
ھ: برقی رو منقطع کرنا۔ ــــ ہ عن: کو سے باز رکھنا، پر کی
قدغن لگانا، ممانعت کرنا، کو کچھ کرنے سے منع کرنا، کو
سے محروم کرنا۔ ــــ ہ: کا حقہ پانی بند کرنا، کو ذات برادری
سے باہر کرنا۔ ــــ فی: پر گہرا نقش کرنا، پر بہت اثر
کرنا۔ ــــ ھ: (دریا کو) پایاب مقام سے عبور کرنا دریا یا
سمندر) عبور کرنا، (ملک سے) گزرنا، ملک کے پار
جانا (فاصلہ) طے کرنا، (خطرہ وغیرہ) سے بچ جانا
(مشکل وغیرہ) دور کرنا، پر قابو پالینا۔ ــــ ھ فی کے
ساتھ وقت گزارنا، ــــ ھ: خوراک کھانا، پینا، کو برت
ڈالنا۔ ــــ ھ/ ب: کا فیصلہ کرنا۔ ــــ ب کو تیقن سے کہنا،
وثوق یا زور سے کہنا، کا وثوق سے اعلان کرنا۔ ــــ بأن
دعوے سے کہنا کہ، ثابت کرتا کہ۔ قُطِعَ: ٹوٹنا، ٹوٹ
جانا، ٹوٹ کر جدا ہونا، قطع کلامی کیا جانا۔ قطع الامل
(الرجاء): امید ترک کر کر دینا، مایوس ہو جانا۔ الثمنَ:
قیمت مقرر کرنا، قیمت پر رضا مند ہو جانا۔ تَذکِرَةً
(بطاقةً): ٹکٹ خریدنا، قطع علیه حدیثهُ: کی بات
کاٹنا، قطع کلامی کرنا۔ قَطَعَ دوراً: کسی دور یا مدت
سے گزرنا، مرحلہ جھیلنا، قطع برأیِ: پختہ رائے ظاہر
کرنا، کی رائے کے حق میں فیصلہ کرنا۔ قطع برأیه:
کسی کی رائے یا فیصلہ کے مطابق کوئی طرز عمل اختیار
کرنا۔ قطع الرَحِمَ: رشتہ داری کے بندھن منقطع کر
دینا۔ قرابت داری کے قواعد کی خلاف ورزی کرنا۔
قطع أشواطًا: ترقی کرنا، قطع شوطا کبیرا
(بعیداً) فی التقدم (او الرُقی): بہت ترقی کرنا،
قطع علیه الطریق: کا راستہ منقطع کرنا، کی راہ میں
حائل ہونا، کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا کی راہزنی
کرنا۔ لا یقطع عقلهُ: وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا یا اس پر
یقین نہیں کر سکتا، یہ بات اس کے دماغ میں نہیں آئے
گی۔ قطع عهداً: معاہدہ کرنا، ــــ عهداً لِ: سے
وعدہ کرنا، عہد کرنا، عہد و پیمان کرنا۔ قطع علی
نفسه عهداًب او قطع الوعدَ علی نفسه ب
کچھ کرنے کا عہد کرنا۔ قطع الکمبیالةَ: ہنڈی، بٹے
پر بیچنا یا خریدنا۔ قطع لسانهُ: کو خاموش کر دینا، کی
زبان بندی کرنا۔ قطع الوقت: وقت گزارنا، کاٹنا۔
قَطَّعَ ھ: کو ٹکڑوں میں کاٹنا، کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کا جوڑ
جوڑ الگ کرنا، (گوشت) کھاتے وقت اس کے
چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، کو چیرنا پھاڑنا، کو گہرا زخم
لگانا۔ ــــ ھ: اپنے ہاتھوں پر گہرا زخم لگانا۔ ــــ قطع کلامی
کرنا یُقَطِّعُ القَلبَ: دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے
والا۔ قَاطَعَ ہ: سے علیحدہ ہو جانا، سے دوستی ختم کر
دینا، کا دل توڑنا، سے اچھے تعلقات نہ رکھنا۔ ــــ ہ/ ھ:
کا بائیکاٹ کرنا، سے لین دین ترک کرنا۔ ملنا جلنا
ترک کرنا، کے سدراہ ہونا۔ ــــ ہ: کی بات میں بول
اٹھنا۔ قاطعهُ الحدیث: کی بات میں بول اٹھنا۔
أقطَعَ ہ ھ: سے کچھ کٹوانا، کو کچھ کاٹنے دینا، کو دریا
پایاب جگہ سے عبور کرانا یا عبور کرنے دینا، کو فوجی
خدمت کے عوض کچھ بطور جاگیر یا معافی دینا، کو کچھ عطا
کرنا۔ ــــ ہ: سے علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ ــــ عن: سے
دوستی ختم کرنا۔ تَقَطَّعَ: کٹ جانا، الگ ہونا، جدا ہونا،
منقطع ہونا، ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، حصے بخرے
ہونا، (برقی رو) کا وقفے والا ہونا، مسلسل بہاؤ والا نہ
ہونا، (الفاظ، اسلوب)، کا بے ربط ہونا، وقتی طور پر
ناکارہ ہو جانا تَقَطَّعَت به الحبال: سراسر بے بس
ہونا، کچھ نہ کر سکنا۔ تقطعت به الاسباب: مزید کچھ
نہ کر سکنا، بدحواس ہو جانا۔ هدفٌ تتقطع دونهُ
الاعناق: ناقابل رسائی ہدف۔ تَقَاطَعَ: جدا ہونا،
الگ ہونا، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا، باہمی
تعلقات ختم کرنا، ایک دوسرے کا دل توڑنا۔ ــــ مع:
سڑکوں یا خطوط کا کسی چیز کو کاٹتے ہوئے گزرنا، کا
متقاطع ہونا، سڑک یا خط کا دوسرے کو عبور کرنا، کاٹنا۔
اِنقَطَعَ من/ عن: سے علیحدہ ہونا، منقطع ہونا۔ ــــ:
منقطع ہونا، ٹوٹنا، جدا ہونا، کٹ جانا، بند ہو جانا، رک
جانا، ختم ہو جانا، معطل ہونا۔ ــــ عن: کو کرنے سے رک
جانا، کو چھوڑ دینا، سے باز رہنا، کو روک دینا، سے
دستبردار ہونا، سے پرے رہنا۔ ــــ ل/ الی: پر توجہ
دینا، میں لگ جانا، کے لئے وقف ہو جانا، کو تن دہی
سے کرنا، پر ہمہ تن متوجہ ہونا، میں مشغول یا لگا رہنا، کے
لئے اپنا پورا وقت دینا۔ اِقتَطَعَ من: کا کچھ حصہ لینا۔
ــــ ھ من: کو سے لینا، عاریتاً لینا، چننا، کا انتخاب کرنا، کو
ایک ایک کر کے چننا، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا (مثال
کے طور پر کتاب سے کہانی)۔ ــــ ہ من: کو سے پھاڑنا
نکالنا (جیسے کتاب سے صفحہ) ــــ ہ: (کوپن) الگ
کرنا، کو حاصل کرنا، علیحدہ اٹھا رکھنا، پر قابض ہونا، پر
قبضہ کرنا، سے استفادہ کرنا۔ استقطع ہ ہ: سے کی بطور
جاگیر درخواست کرنا، ــــ ھ: کوئی رقم مجرا کرنا، قَطع:
تفریق، تنہائی، مجرائی، کٹوتی، چھوٹ (جمع اقطاع)
کتاب کی تقطیع (جمع قطوع:) سیکشن (جومیٹری)
قَطعًا: یقیناً، قطعاً، ٹھیک ٹھیک طور پر، وثوق سے، بے
شک (نفی کے ساتھ) مطلقاً نہیں، قطعاً نہیں، کسی
طرح بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ قطع الحسابات: حساب
کی بے باقی، قطعُ الطریق: رہزنی، قزاقی، قطع
الطریق علی: کی زبردستی رکاوٹ، قطعُ الماهیة:
تنخواہ کی مجرائی، تنخواہ میں کمی۔ سِعرُ (معدلُ) القطع:
کٹوتی کی شرح، بینک کی شرح۔ قطع الرُبع: ایک
تختہ کے چار ورق کی تقطیع۔ قطع کتبِ الجیب:
جیبی سائز (کتاب) قطعُ مخروطٍ یا قطعٌ
مخروطی: گاؤدم (مخروطی) سیکشن (جومیٹری)
قطع زائد: قطعہ زائد، قطعہ ہذلولی (جومیٹری) قطع
مُکافِئ: شکل شلجمی (جومیٹری) قطع ناقِص: بیضوی
شکل (وہ ہندسی شکل جو مخروط کو ترچھا تراشنے سے بنتی
ہے) (جومیٹری) قطعاً للوقت: تفریحاً، محض وقت
گزارنے کے لئے۔ بِقطع النظر عن: سے قطع
نظر، کے علاوہ۔ همزة القطع: جدا کرنے والا ہمزہ۔
قَطعِی: اٹل، طے شدہ، قطعی، یقینی، پس و پیش کے بغیر،
حد بندی کیا ہوا، واضح، غیر مبہم، اثباتی، ایجابی، مثبت،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فیصلہ کن۔ قطعیاً: یقیناً، بالکل، قطعاً، صاف طور پر، واضح طور پر، پرزور طریقہ پر، صاف صاف، غیر مشروط طور پر۔ قطعیۃ: یقین، ایقان، یقینی امر، وضوح، قطعیت، ایجاب، اثبات۔ قِطعَۃ جمع قِطَع: ٹکڑا، پرزہ، ریزہ، ڈھیلہ، ڈلا، ڈھیر، قاش، پھانک، حصہ، سیکشن، ڈویژن، قطعہ، سکہ، بحری یونٹ، یونٹ۔ قطعۃ الدائرہ یا القطعۃ الدائریۃ: دائرہ کا قطعہ (جومیٹری)۔ قطعۃ الترکیب: (مشین، آلات) کا حصہ۔ قطعۃ الازدواج: جوڑنے والا عنصر (بجلی) قطعۃ مسرحیۃ: سٹیج ڈرامہ۔ قطعۃ غِنائیۃ: نغمہ نگاری۔ قطعۃ غیار یا قطعۃ التغییر: سپیئر پارٹ۔ قطعۃ فنیۃ: تخلیقی چیز، فنکاری کا نمونہ۔ القطعۃ الکرویۃ: کروی قطعہ (جومیٹری) قطعۃ تمثیلیۃ: ڈرامہ، سٹیج ڈرامہ۔ قطعۃ موسیقیۃ: نغمہ نگاری، نغمہ گری۔ قطعۃ مالیۃ: سکہ۔ العمل بالقِطع: ٹھیکہ کا کام۔ قُطعَۃ جمع قُطُعات و قُطَع: کٹا ہوا ٹکڑا، ٹکڑا، ٹھنٹھ، ٹنڈ، زمین کا قطعہ، زمین کا ٹکڑا۔ قَطعَۃ جمع قَطَعات و قَطَع: ٹھنٹھ، ٹنڈ قِطاع و قُطاع جمع قطاعات: حصہ، قطعہ (جومیٹری) قطاع عرضی: اندرونی منظر، اندرونی منظر کی تصویر۔ القطاع الدائری: دائرہ کا قطعہ۔ القِطاع الکُرَوی: کروی قطعہ۔ قَطّاع: پتھر کاٹنے والا، لکڑیاں کاٹنے والا۔ القَطّاعی: خوردہ فروشی سے۔ قطیعۃ: ناچاقی، جدائی، علیحدگی، افتراق، بے گانگی، کشیدگی، رنجش، رشتہ داروں میں دشمنی قطیعۃ الرحم بمعنی بالا جمع قَطائع: جاگیر، حق خدمت، جاگیردارانہ ریاست، تعلقہ، جاگیری زمین۔ اَقطَع: زیادہ یقین بخش، زیادہ فیصلہ کن (مونث قطعاء)۔ ایک بازو والا، گونگا۔ مَقطَع جمع مَقاطِع: چوراہا، پایاب مقام، نقطہ، نقاطع، اندرونی منظر، اندرونی منظر کی تصویر، سیکشن، ڈویژن، رکن تہجی، گیت کا ٹکڑا، جانوروں کا ریوڑ، گلہ۔ مقطع الرأی: فیصلہ۔ مِقطَع جمع مَقاطِع: کاٹنے کا آلہ۔ مقطع السیجار: سگار و چرٹ کاٹنے والا مقطع الورق: کاغذ کاٹنے کا چاقو۔ تقطیع: اراضی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تقسیم، حصے بخرے کرنا، بند بند جدا کرنا، انقطاع، توڑنا، مداخلت، خلل اندازی، قطع کلامی، خلل، رکاوٹ، قولنج، درد شکم، تقاطیع: شکل، صورت، قد و قامت، حصے، ارکان تقاطیع الوجہ: چہرہ مہرہ، چہرے کے خدوخال مُقاطَعَہ جمع مقاطعات: علاقہ، خطہ، حصہ، قطعہ، ضلع، صوبہ۔ اِقطاع و اِقطاعۃ جمع اِقطاعات

جاگیر، تعلق، جاگیرداری والی زمین۔ ذو الاقطاع: جاگیردار۔ اِقطاعی: جاگیردارانہ جمع اقطاعیون: جاگیردار۔ اقطاعیۃ: جاگیرداری الاقطاعیۃ: جاگیردارانہ نظام۔ انقطاع التیار: بجلی کا انقطاع، بدون انقطاع یا من غیر انقطاع: مسلسل، لگاتار، پے درپے، دائماً، خلل اندازی کے بغیر۔ قاطع: کاٹ دار، تیز، یقین بخش، زوردار، قوی، معقول یا دل کو لگتی ہوئی (گواہی) ناقابل تردید، فیصلہ کن (ثبوت)، طے شدہ، فیصلہ شدہ، واضح، غیر مبہم، قطعی، صریح، آخری، فیصلہ کن، حتمی، غیر مشروط، کھٹا (دودھ)، خط قاطع، نصف دائرے اور مماس کا وتر (جومیٹری) جمع قواطع: پردہ، پارٹیشن، بصفۃ قاطعۃ: یقیناً سنُّ قاطعۃ: اگلا دانت۔ طیر قواطع: خاص موسم میں نظر آنے والے پرندے۔ قاطع التذاکر: ٹکٹ فروش، کنڈکٹر۔ قاطِعۃ: برقی رو کا راستہ توڑنے والا، سرکٹ بریکر (بجلی) مقطوع بہ: طے شدہ، فیصلہ شدہ، ختم کیا ہوا، کر گزرا ہوا، (معاملہ وغیرہ) جمع مقاطیع: چھوٹی نظم۔ مقطوع النظیر: انوکھا، لاثانی، لاجواب، بے نظیر، مفرد، بے بدل۔ مقطوعۃ جمع مقطوعات و مقاطیع: ٹکڑا (موسیقی کا) مقطوعۃ موسیقیۃ: نغمہ نگاری، نغمہ گری، موسیقی کا ٹکڑا۔ بالمقطوعیۃ: سارا ایک ہی بار۔ یکمشت۔ مُتَقَطِّع: کٹا ہوا، پھٹا ہوا، منقطع، رک رک کر بہنے والی (برقی رو) مرحلہ وار (تحریک، حرکت) وقفہ دار، غیر مسلسل (آواز) بے ربط (الفاظ)، تیار متقطع: الٹی رو، بدلو رو۔ (AC= alternating current) مُنقَطِع: کٹا ہوا، جدا کیا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، ٹوٹا ہوا، روکا ہوا، منقطع (برقی رو) وقفہ دار، دور افتادہ (علاقہ)۔ ۔ ل/ الی کے لئے وقف، نذر کیا ہوا، مخصوص، وقف کیا ہوا، مقرر یا مامور، منقطع النظیر و منقطع القرین: بے نظیر، یکتا، یگانہ، بے مثال، فقید المثال، منفرد۔ غیر مُنقَطِع: لگاتار، مسلسل، غیر منقطع، پے در پے، متواتر مُستَقطَع: کٹوتی (تنخواہ سے) مجرا شدہ رقم۔

قطف: ۱۔ قَطَفَ ـِ قَطفًا و قَطَّفَ ہٗ: پر خراش کرنا۔ القَطف ج قُطُوف: اثر، نشان۔ القَطفُ (مص) ج قُطُوف: خراشنا، خراش۔

۲۔ قَطَفَ ـِ قَطفًا الثمر: پھل چننا۔ ۔ الشیئ کو اچک لینا۔ ۔ مُعسَلتَہٗ: چھتے سے شہد نکالنا۔ قَطَّفَ الثمرَ: پھل چننا۔ ۔ الشیئ کو اچک لینا۔ ۔ [illegible]

الجزّارُ اللحمَ: قصائی کا گوشت سے ہڈیاں نکالنا اَقطَفَ الکرمُ: انگور توڑنے کے قابل ہونا۔ اِقتَطَفَ الثمرَ: پھل چننا۔ ۔ الشیئَ: کو اچک لینا۔ ۔ الکلامَ: کلام کا خلاصہ کرنا۔ القِطفُ ج قِطافٌ و قُطُوفٌ: توڑا ہوا پھل، انگوروں کا خوشہ۔ (توڑنے کے وقت) القِطافُ و القَطافُ: پھل توڑنے کا موسم، چننا۔ القُطافَۃُ: انگور توڑتے وقت جو گر پڑے۔ القَطِیفُ: توڑا ہوا۔ المَقطَفُ ج مَقاطِف: ٹوکری جس میں پھل چنا جائے۔ المِقطَفُ: قینچی جس سے پھل کاٹا جائے، خوشہ کی جڑ آٹا چھاننے کی چھلنی۔

۳۔ قَطَفَ ـِ قِطافًا و قُطُوفًا الفرسُ وغیرہٗ: گھوڑے وغیرہ کا آہستہ آہستہ چلنا۔ اَقطَفَ الرجلُ: سست رفتار جانور کا مالک ہونا۔ القَطُوفُ من الدواب ج قُطُفٌ: سست رفتار جانور۔

۴۔ القَطَفُ (ن): سبزی واحد قَطَفَۃٌ (ن): پہاڑی درخت جس کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے۔ القِطفَۃ (ن): ایک خاردار سبزی جس کا اندرونی حصہ سرخ اور اس کے پتے خاکستری ہوتے ہیں۔ القَطِیفَۃ (ن): ایک قسم کی نباتات جسے سالف العروس بھی کہتے ہیں اس کی کئی اقسام ہیں اس کے تنہ پتے اور پھول ارغوانی رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کی ایک قسم (قطیفۃ الذیل) کا پودا تزئین و آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔ القَطِیفَۃ ج قُطُفٌ و قَطائِف: روئیں دار چادر القَطائِف: میٹھی ٹکیا، میٹھی روٹی المُقَطَّفَۃ: پست قد مرد۔

قطل: ۱۔ قَطَلَ ـُ قَطلًا الشیئَ: کو کاٹنا۔ ۔ عُنُقَہٗ: کی گردن پر مارنا۔ قَطَّلَ الشیئَ: کو کاٹنا۔ ۔ ہٗ: کو پچھاڑنا یا ایک پہلو پر گرا دینا۔ تَقَطَّلَ الجذعُ: تنہ کا جڑ سے کٹنا۔ القُطلُ و القَطِیلُ من الشجر و نحوہ: کٹا ہوا درخت وغیرہ کہا جاتا ہے۔ نَخلَۃٌ قَطِیلٌ و جِذعٌ قُطلٌ و قَطِیلٌ: یعنی جڑ سے کٹا ہوا کھجور کا درخت اور تنہ۔ القَطِیلَۃ: جھاڑن جس سے پانی وغیرہ خشک کیا جائے۔ المِقطَلَۃ ج مَقاطِل: کاٹنے کا لوہا۔ المُقطَّل (مفع): پکا ہوا۔

۲۔ القُطلُب واحد قُطلُبَۃ (ن): ایک درخت جس کے پتے متناسب، بڑے اور بیضوی شکل کے اور پھول سفید گھنٹی کی شکل کے اور پھل انگور جیسے ہوتے ہیں اس کی ایک قسم جسے القطلب العثکولی کہتے ہیں مشرق قریب کے ممالک میں بکثرت ہوتی ہے۔

قَطَفَ ـِ قَطفًا و قُطُوفًا ہ: (پھول، پھل) چننا، توڑنا، (پھل) جمع کرنا، پھلوں کی کٹائی کرنا (پتے وغیرہ) توڑنا، (ملائی، پپڑی) اتارنا۔ قَطَّفَ ہ پر

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خراش ڈالنا۔ قَطَفَ بمعنی قَطَفَ اِقْتَطَفَ ہ: (پھول، پھل) چننا، توڑنا، (پھولوں کو) جمع کرنا، (پھولوں کی) کٹائی کرنا۔ ۔ کوتوڑنا۔ ۔ ہ من: میں سے کوئی چیز منتخب کرنا۔ قَطْف: چننا، توڑنا، وغیرہ قُطُوف خراش، قِطْف: چنا ہوا، پھل، توڑا ہوا پھل، قِطَاف چننا، جمع کرنا، پھلوں کی کٹائی، کٹائی کا موسم، دَانِی القُطُوف: رسائی میں، موجود، استعمال میں آسان، برتنے میں سہل، قریب ہی، قَطُوف جمع قُطُف چھوٹے قدموں والا، آہستہ، ست، قَطِیفَة: مخمل، پلش۔ قطائف و قطایف (جمع) چھوٹی تکونی میٹھی ٹکیاں، جو پگھلے ہوئے مکھن میں تلی جاتی ہیں۔ مِقْطَف جمع مَقَاطِف پھل چننے کا آلہ، چاقو مَقْطَف جمع مَقَاطِف: ٹوکری۔ مُقْتَطَف جمع مقتطفات: منتخب ٹکڑا، انتخاب، چنی ہوئی چیزیں۔ قَطْقُوطَة: نوجوان لڑکی۔ قَطَلَ ـُ قَطْلًا و قَطَّلَ ہ: کوروکنا، آگے نہ بڑھنے دینا۔ قِطِیلَة: تولیہ، فرش صاف کرنے کا کپڑے کا چھوٹا ٹکڑا، صافی، تولیہ۔

قطم: ا۔ قَطَمَ ـِ قَطْمًا اللحمَ وغیرَہُ: گوشت وغیرہ کا خواہشمند ہونا۔ قَطِمَ ـَ قَطَمًا: گوشت وغیرہ کا خواہش مند ہونا صفت قَطِمٌ۔ القَطَام (ح): شکرا، گوشت کا شوقین شکرا۔ القَطَامِیُّ و القُطَامِیُّ (ح): تیز نظر کا شکرا جو شکار کی طرف نظر اٹھائے رہتا ہے۔ رَجُل قَطَامِیٌّ: معاملات میں خودسر مرد۔ المِقْطَمُ ج مَقَاطِمُ: چنگل۔

٢۔ قَطَمَ ـِ قَطْمًا ہُ: کودانت سے کاٹ کر چکھنا۔ العُود: کودانت سے کاٹ کر سختی، نرمی محسوس کرنا۔ الشیئَ: کوکاٹنا۔ قَطَمَ الشاربُ: پینے والے کا شراب چکھنا اور منہ بنانا۔ القُطَامَةُ: جو منہ سے کاٹا جائے پھر پھینک دیا جائے۔ القَطَامِیُّ و القُطَامِیُّ: تیز شراب۔ القَطِمُ: غضبناک۔ القَطِیمَةُ: دودھ جس کا ذائقہ متغیر ہوگیا ہو، ٹکڑا، غلہ کا ایک لپ کہا جاتا ہے شَیْئٌ مُزٌّ المَقْطَم: مزے کے لحاظ سے کھٹی میٹھی چیز۔

٣۔ القِطْمَارُ و القِطْمِیرُ (ز): کھجور کی گٹھلی اور پھل کے درمیان باریک چھلکا، کہا جاتا ہے مَا اَصَبْتُ مِنْهُ قِطْمِیرًا: یعنی میں نے اس سے کچھ نہیں پایا۔

○ قَطْمَة: ٹکڑا، لقمہ، نوالہ۔ المُقَطَّم: قاہرہ کے مشرق میں پہاڑی سلسلہ۔ لا یملك قِطْمِیرًا: وہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں۔

قطن: ا۔ قَطَنَ ـُ قُطُونًا فی المکان وبہ: میں اقامت کرنا، کووطن بنانا۔ ۔ الرجلَ: کی خدمت کرنا۔ قَطَّنَ ہُ بالمکان: کومیں اقامت کرانا۔ القَاطِنُ (فا ج قُطَّانٌ و قَاطِنَةٌ و قَطِینٌ): کسی جگہ مقیم قَاطِنَاتُ مَکَّةَ وَقُطَّنُهَا: مکہ کے کبوتر۔ القَطَنُ (مص) ج اَقْطَانٌ: اقامت کی جگہ۔ القَطَانَةُ: ہانڈی۔ القُطْنِیَّةُ و القِطْنِیَّةُ ج قَطَانِیُّ: دانے جو پکائے جائیں جیسے مسور، چنا وغیرہ۔ القَطَانِیَّاتُ: اس کے لئے قرنیات کا لفظ ملاحظہ کریں۔ القَطِینُ القَاطِنُ کی جمع، کسی جگہ مقیم، گھر کے لوگ خادم، نوکر چاکر (واحد و جمع) یا ج قُطُنٌ کہا جاتا ہے: هٰؤلاءِ قَطِینُ فُلَانٍ یعنی یہ لوگ فلاں کے نوکر چاکر ہیں۔ و قَطِینُ اللّٰهِ: اللہ کے حرم کے رہنے والے لوگ۔ القَطِینَةُ: گھر کے رہنے والے۔

٢۔ قَطِنَ ـَ قَطَنًا ظهرُہُ: کی پیٹھ کا جھکنا صفت اَقْطَنُ۔ القَطَنُ ج اَقْطَانُ: پشت انسانی کا پست اور ہموار حصہ۔

٣۔ قَطَّنَ الکرمُ: انگور کی بیل کا شگوفہ دار ہونا۔ ۔ الطعامُ و نحوہ عند العامة: کھانے وغیرہ کا بدبودار ہونا، باسی ہونا۔ القُطْنُ: ایک ٹکڑے کو قُطْنَة کہتے ہیں بعض اوقات اس کی جمع اَقْطَانٌ آتی ہے (ن): کپاس، روئی القُطُنُ (ن): کپاس روئی، القَطَّان: روئی فروش القِطْنِیَّةُ القُطْنِیَّة: روئی کے بنے ہوئے کپڑے۔ القِیْطَانُ: ریشم وغیرہ سے جوری کی مانند بنا جائے۔ المَقْطَنَة: زمین جس میں کپاس بوئی جائے۔

٤۔ القَطَنُ ج اَقْطَانٌ: پرندہ کی دم کی جڑ، دونوں سرینوں کے درمیان۔ القِطْنَةُ: اوجھ کا پرت دار حصہ۔ القَطِنَة: اوجھ کا پرت دار حصہ سرینوں کے درمیان کا گوشت۔ القِطَانُ ج قُطُنٌ: ہودج کی لکڑی۔ الیَقْطِینُ واحد یَقْطِینَةٌ (ن): بیل والی نباتات جیسے کھیرا، ککڑی وغیرہ، یہ کدو کے لئے اکثر مستعمل ہے۔

قطو: ا۔ قَطَا ـُ قَطْوًا: بوجھل چال سے چلنا۔ ۔ الماشی: آہستہ چلنا یا نشاط سے چلنا۔ ۔ ت القطا: قطا کا آواز کرنا۔ تَقَطَّی: دبر کرنا۔ اِقْطَوْطَی: آہستہ چلنا یا نشاط سے چلنا۔ القَطَاةُ ج قَطًا و قَطَوَاتٌ و قَطَیَاتٌ (ح): کبوتر کے برابر ایک پرندہ، جو رہنمائی کرنے میں ضرب المثل ہے کہا جاتا ہے۔ اَهْدٰی مِنَ القَطَا: اور کہا جاتا ہے ذَهَبُوا فِی الْاَرْضِ بقطًا: زمین میں متفرق ہوگئے۔ القَطَوَانُ و القَطْوَانُ: آہستہ چلنے والا۔ القَطَوْطَی: آہستہ چلنے والا، لمبی ٹانگوں والا۔ تَقَطَّی الفرسَ: گھوڑے کے پچھے پر سوار ہونا۔ القَطَاةُ من الدابة: چوتڑ، ردیف کے بیٹھنے کی جگہ، دونوں سرینوں کے درمیان۔

٣۔ تَقَطَّی لاصحابہ: ساتھیوں کو فریب دینا۔ ۔ بوجهه عنه: سے روگردانی کرنا، اعراض کرنا۔

قعّ: ا۔ قَعَّ ـُ قَعَّاہُ: سے بے باکی سے گفتگو کرنا۔ اَقَعَّ القومُ: کھودنا اور کھاری پانی پر بھیڑ کرنا۔ القُعّ و القُعَاعُ من المیاہ: بہت زیادہ کھاری پانی جس سے زیادہ کھاری پانی نہ ملے۔

٢۔ قَعْقَعَ قَعْقَعَةً السلاحُ: ہتھیار کا آواز نکالنا، کی جھنکار ہونا۔ ۔ الشیئَ الیابسَ: کو آواز کے ساتھ حرکت دینا۔ ۔ القداحَ: تیروں کو جوئے میں گھمانا۔ ۔ ت عُمُدُهم: کوچ کرنا۔ ۔ فی الارض: جانا، کہتے ہیں۔ فلان ما یُقَعْقَعُ لَهُ بالسِنَان: فلاں کو حوادثات زمانہ گھبراہٹ میں نہیں ڈال سکتے۔ تَقَعْقَعَ: مضطرب ہونا۔ حرکت کرنا، حرکت کے وقت آواز کرنا ۔ ت عُمُدُهم: کوچ کرنا۔ القُعْقُعُ (ح): سفید اور سیاہ دورنگوں والا کوا جس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ القَعْقَاعُ: ہتھیار کی جھنکار، آواز، خشک کھجور، شدید بخار جو داڑھوں پر اثر انداز ہو، راستہ جس پر مشقت سے چلا جائے۔ ۔ و القُعْقُعَانِیُّ: چلتے وقت پاؤں کے جوڑوں کے چٹاخے نکلنے کی آواز والا۔ القَعْقَعَةُ: دانتوں کے رگڑنے کی آواز۔ القَعَاقِعُ قَعْقَعَةٌ کی جمع لگاتار گرج کی آوازیں۔ القُعَاقِعُ: بہت آواز والا۔

قعب: ا۔ قَعَّبَ فلانٌ فی الکلام: حلق کے انتہائی حصہ سے بولنا۔ ۔ الحافرُ: سم کا گنبد دار ہونا۔ القَاعِبُ: بلبلانے والا بھیڑیا۔ القَعْبُ ج اَقْعُبٌ و قِعَابٌ و قِعَبَةٌ: بڑا پیالہ۔ قَعْبُ الکلام: کلام کی گہرائی۔ القُعْبَةُ: پہاڑ کا گڑھا۔ القَعِیبُ: عدد کثیر۔

٢۔ القَعْبَلُ: دودھ دوہنے کا پیالہ، درشت خومرد۔ ۔ و القِعْبِل (ن): سانپ کی چھتری کی ایک قسم، (ن): ایک نباتات جو زمین سے اگے۔

قعث: ا۔ قَعَثَ ـُ قَعْثًا و قَعْثَةً له من الشیئ: کو لپ بھر چیز دینا۔ اَقْعَثَ فی مالہ: میں فضول خرچی کرنا۔ ۔ لهُ العطیَّةَ: کو بہت عطیہ دینا۔ اِقْتَعَثَ الحافرُ: کھودنے والے کا کنویں سے بہت مٹی نکالنا۔ ۔ لهُ العطیةَ: کو بہت عطیہ دینا۔ القَعِیثُ: موسلا دھار بارش بھرا سیلاب۔

٢۔ قَعَثَ ـُ قَعْثًا و قَعْثَةً و قَعَّثَ الشیئَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اِنْقَعَثَ: جڑ سے اکھڑنا۔ ۔ الحائطُ: دیوار کا جڑ سے گرنا۔

٣۔ القَعِیثُ: آسان۔

○ قُطْن و قُطُن جمع اَقْطان: کپاس، روئی۔ قطن خام خام روئی، نہ بیلی ہوئی روئی۔ دھنی ہوئی روئی قطن

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سکارتو: سوت کا گوڈر، قطن طبی: چوسنے والی روئی۔ قطن مُلْتَهِب: تیزابی روئی۔ حطب القطن: لکڑی کی ہلکی چھپٹیاں (پیکنگ کی Excelsior) مِحْلَج القطن: کپاس بیلنے کی مشین، بیلن۔ قُطْنی: کپاس کا، روئی کا۔ قُطْنِية و قِطْنِيَة جمع قَطَانِی: دال (جیسے مسور، پھلی کے دانے وغیرہ) قُطانية و قِطانِيَة: کمی۔ قَطَّان: روئی کا تاجر، روئی کا کارخانہ دار۔ يَقْطِين: (واحد يَقْطِينَة: ایک قسم کا کدو۔ مَقْطَنَة: کپاس کے کھیت۔ قَاطِن جمع قُطّان: مقیم، باشندہ، ساکن، متوطن، رہنے والا۔ قِيطان: ڈوری، طناب، تسمہ، لیس، جھالر جمع قياطين۔

قعد ۱۔ قَعَدَ ـُ قُعُودًا و مَقْعَدًا: کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنا۔ قُعُودًا: کھڑا ہونا۔ ـــ به: کو بٹھانا۔ ـــ ت الفسيلة: پودے کا تناور ہونا۔ یہ صار اور طفق کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے قعد يشتمني: اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کیں۔ قَاعَدَ مُقَاعَدَةً ہٗ: دوسرے کے ساتھ بیٹھنا۔ اَقْعَدَ ہٗ: کو بٹھانا۔ بالمكان: میں اقامت کرنا ـــ الرجُلَ: کو کھڑا کرنا ـــ البئرَ: کنواں بیٹھنے کے لائق کھودنا اور پانی تک نہ پہنچانا۔ اُقْعِدَ: قعاد کی بیماری والا ہونا (قعاد ایک بیماری ہے جس میں آدمی چلنے پھرنے سے معذور رہتا ہے)۔ اِقْتَعَدَ الدابّةَ: چوپایہ کو سواری بنانا۔ القَاعِدُ (فا) ج قُعُودٌ: غلے سے بھرے ہوئے گون۔ القَاعِدَةُ ج قَوَاعِدُ: القاعد کی مونث، (ع ج): ریاضی کا قانون جبریہ، جسے دستور یا قانون بھی کہا جاتا ہے (ك) اَسَاسٌ ملاحظہ کریں۔ ـــ من البيت: گھر کی بنیاد ـــ من الهودج: ہودج کی لکڑی ـــ من البلاد: ملک کا سب سے بڑا شہر، اس سے ہے۔ قاعدة الطائرات: ائرپورٹ، ہوائی اڈہ ـــ في الاصطلاح: اصلی کلی جو سارے جزئیات پر منطبق ہو ـــ عند الكتّاب: خط کی تعلیم کا نمونہ ـــ قاعدة التمثال: وہ بلند چبوترہ وغیرہ جس پر مجسمہ نصب کیا جائے۔ القُعْدَةُ ج قُعُدَاتٌ: بیٹھنے کی چیز، زین وغیرہ۔ (ح): گدھا ـــ من الابل: چرواہے کیلئے ہر حاجت میں سواری کا اونٹ۔ القَعْدَةُ: قعد سے اسم مرہ: انسان کے لئے سواری، غالیچہ ـــ و القِعْدَةُ: جگہ جو بیٹھنے والا گھیرے ذو القَعْدة و ذو القِعْدَة: قمری مہینوں میں سے گیارہواں مہینہ۔ بئرٌ قِعْدَةٌ: بیٹھنے والے انسان کے حصہ جتنا اونچا کنواں القُعَدَةُ: بہت بیٹھنے والا، کہا جاتا ہے۔ هُوَ قُعَدَةٌ ضُجَعَةٌ: وہ بہت بیٹھنے اور لیٹنے والا ہے یعنی بہت کاہل اور سست ہے۔ القَعَدَةُ: سواری، غالیچہ۔

الاُقْعَادُ و القُعَادُ (طب): ایک بیماری ہے جس کو یہ لاحق ہو جاتی ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ القِعَادُ: بیوی۔ القُعْدِیُّ: بہت بیٹھنے والا، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ قُعْدِيٌّ ضُجْعِيٌّ: بہت بیٹھنے اور لیٹنے والا مرد، عاجز، جس کا بیٹھا رہنے کو ہی جی چاہے۔ القُعْدِيَّةُ و القِعْدِيَّةُ: بہت بیٹھنے والا مرد۔ القَعَدِيُّ ج القَعَدِيَّةُ: اپنے مسلمان دشمنوں کے درمیان رہنے والا خارجی القَعُودُ ج اَقْعِدَةٌ و قُعُدٌ و قِعْدَانٌ و قَعَائِدُ: دوسرا ہونے تک والدین کا پہلا بچہ۔ اونٹنی یا گائے کا بچہ جو ماں سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ و القَعُود: ج اَقْعِدَةٌ و قُعُدٌ و قِعْدانٌ و قَعَائِدُ من الابل: اونٹ جس کو چرواہا ہر ضرورت کے موقع پر استعمال کرے۔ القَعِيدُ واحد، جمع مذکر اور مونث کے لئے۔ ہم نشین، ٹڈی جس کے پر اچھی طرح نہ نکلے ہوں۔ نگہبان، کہا جاتا ہے قَعِيدَكَ اللّٰهَ و قَعْدَكَ اللّٰهَ: اللہ تیری حفاظت کرے، اور کہا جاتا ہے فلانٌ قعيدُ النسب: فلاں قریب النسب ہے ـــ قَعِيدا كُلِّ اَمْرٍ: دائیں بائیں کے محافظ۔ القَعِيدَةُ ج قَعَائِدُ: عورت، بیٹھنے کی چیز، بورا وغیرہ۔ القُعَيْدُ: قَعُودٌ کی تصغیر، اس سے مثل ہے۔ اِتَّخَذُوهُ قُعَيْدَ الحَاجَاتِ: جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔ الاَقْعَدُ النَسَبِ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔ المُقْعَدُ: قعاد کی بیماری والا۔ (ح): گدھ کا بچہ، ابھری ہوئی پستان، کہا جاتا ہے فلانٌ مُقْعَدُ الاَنْفِ: یعنی اس کے نتھنے کشادہ ہیں اور کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ مُقْعَدُ الحَسَبِ: فلاں شرف والا نہیں ہے۔ المُقْعَدَةُ: المُقْعَد کی مونث، کنواں جسے کھودا گیا ہو اور پانی نکلنے پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ المُقْعَدَاتُ (ح): قطا کے بچے اٹھنے سے پہلے۔ (ح): مینڈکیں۔ المَقْعَدُ ج مَقَاعِدُ: بیٹھنے کی جگہ، المَقْعَدَة: بیٹھنے کی جگہ، شخص کا نچلا حصہ، پائخانہ کرنے کا برتن۔

۲۔ قَعَدَ ـُ قُعُودًا عن حاجته: سے پیچھے رہنا ـــ ت النخلةُ: دوسرے سال پھل دینا کہا جاتا ہے قَعَدَ بي عَنْكَ شُغْلٌ: مجھے تم سے کام کاج نے روک دیا۔ قَعَّدَ ہٗ عن كذا: کو سے روک دینا۔ اَقْعَدَ ہٗ عن الامر: کو سے روک دینا۔ تَقَعَّدَ: توقف کرنا ـــ ہٗ: سے ٹال مٹول کرنا ـــ عن الامر: کام کا مطالبہ ترک کر دینا۔ تَقَاعَدَ به فلانٌ: کا حق ادا نہ کرنا۔ اِقْتَعَدَ کہا جاتا ہے۔ مَا اقْتَعَدَكَ عَنْهُ: کس چیز نے تمہیں اس سے روکا۔ القَعَدُ: وہ لوگ جو شریک جنگ نہ ہوں خوارج۔ القُعُدُ: بزدل، جنگ ... کا اخلاق سے باز رہنے والا، گم نام۔ رَجُلٌ قُعْدُدَةٌ: بزدل۔

۳۔ قَعَدَ ـُ قُعُودًا فلانٌ بقرنِهِ: ہمسر کا جوڑ ہونا۔ ـــ للحرب: جنگجو لوگوں کو جنگ کے لئے تیار کرنا۔ القَعَدُ: فوجی لوگ جن کی تنخواہ مقرر نہ ہو۔

۴۔ قَعَدَ ـُ قُعُودًا ت المرأةُ: عورت کے شوہر کا لاپتہ ہونا۔ القَاعِدُ ج قُعُودٌ: وہ عورت جس کا لڑکا اور شوہر کوئی نہ ہو۔

۵۔ قَعَدَ ہٗ: کی خدمت کرنا، کہا جاتا ہے۔ قَعَّدَ اَبَاهُ: اس نے اپنے باپ کو بٹھا دیا، کسب رزق کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ ـــ رَجُل: کی خدمت کرنا ـــ اَبَاهُ: کو کسب رزق کے بوجھ سے آزاد کرنا۔ تَقَعَّدَ ہٗ: کا کام کرنا۔ تَقَاعَدَ فلانٌ في الاصطلاح: ریٹائرڈ ہو جانا، ماہانہ پنشن پانا۔

۶۔ القَعِيدُ: پرندہ یا ہرن جو تمہارے پیچھے سے آئے اور اس سے بدفالی کی جائے (یہ نطیح کے خلاف ہے)۔

۷۔ القُعْدُدُ و القُعْدَدُ و القُعْدُودُ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب، مورث اعلیٰ سے بعید النسب (ضد)۔

قَعَدَ ـُ قُعُودًا: بیٹھ جانا، بیٹھنا، بیٹھا ہوا ہونا، بیٹھا رہنا، رہنا، ٹھہرنا، اقامت گزین ہونا ـــ ل: کی گھات میں بیٹھنا، کی رہزنی کرنا ـــ عن: سے باز رہنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، سے قطع تعلق کرنا، دستبردار ہونا، دستکش ہونا ـــ به: کو بٹھانا، کو ٹھہرنے کی ترغیب دینا، کو بے بس کر دینا۔ قعدت به رُكْبَتَاهُ: اس کے گھٹنے اس کے نیچے مڑ گئے قعد به عن: کو سے روکنا منع کرنا، قعد عن الذهاب: اس نے نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ قَامَ و قَعَدَ: سخت پریشانی میں ہونا، بہت مضطرب ہونا ـــ ل: سے بہت دہشت زدہ ہونا۔ اَقْعَدَہٗ: کو بٹھانا، کو ٹھہرنے کی ترغیب دینا ـــ ہ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا ـــ من: کوئی چیز کم کرنا۔ اُقْعِدَ: لنگڑا ہونا۔ اَقَامَهُ و اَقْعَدَہٗ: کو سخت پریشان کرنا، کو سخت جذباتی حالت میں ڈال دینا۔ اَقْعَدَ من هِمَّتِهِ: کا جوش ٹھنڈا کرنا۔ تَقَعَّدَ عن: کا متمنی نہ ہونا، کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، سے باز رہنا۔ تَقَاعَدَ: بمعنی تَقَعَّدَ نیز تَقَاعَدَ عن: سے احتراز کرنا ـــ: ریٹائر ہونا، پنشن پر جانا۔ اِقْتَعَدَ ہ: کو نشست کے طور پر لینا یا استعمال کرنا، پر بیٹھنا، کی حالت میں ہونا یا رہنا۔ قَعَد: جنگ کے زمانہ میں فوجی خدمت میں کام چور، خوارج کا لقب۔ قَعْدَة: بیٹھنا، چوتڑ، بیٹھنے کی جگہ، وہ جگہ جس پر کوئی بیٹھا ہو۔ ذو القعدة: اسلامی سال کا گیارہواں مہینہ۔ قِعْدَة: بیٹھنے کا انداز، وہ جگہ جس پر کوئی بیٹھا ہو، بیٹھنے کی جگہ قُعَدة: بیٹھا رہنے والا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مضبوطی سے بیٹھا ہوا، ست، بے حس و حرکت، آرام طلب، نکما۔ قُعَدِی: بیٹھا رہنا والا، مضبوطی سے بیٹھا ہوا، ست، بے حس و حرکت، آرام طلب، نکما قَعُود جمع اَقْعِدَة و قُعُد و قِعْدان و قَعَائِد: نو جوان اونٹ۔ قعنود: بیٹھنا۔ ۔ عن ۔ سے باز رہنا، سے دستبرداری، دستکشی۔ قَعِید: ساتھی، ہم جلیس، نگران، لنگڑا لولا۔ کمزور، ضعیف۔ قعیدُ المَنْزِل گھر تک محدود قعیدة: سہیلی، بیوی۔ مَقْعَد جمع مَقَاعِد: بیٹھنے کی جگہ، نشست، کرسی، بنچ، صوفہ، بکس (سینما، تھیٹر کا)۔ ڈرائیور کے بیٹھنے کی جگہ۔ مقعد مُرِیح: آرام کرسی، بازوؤں والی کرسی۔ مَقْعَدَة جمع مَقَاعِد: چوتڑ۔ تقاعد: پابندی، کم گوئی، خاموشی، علیحدگی، جھجک، ریٹائرمنٹ، مَعَاش التقاعد: پنشن۔ اُحِیلَ الی التقاعد: پنشن پر بھیجا جانا۔ ریٹائر ہونا۔

قاعِد جمع قُعُود و قُعَّاد: بیٹھا ہوا، ست، قاعد عن العمل: بے کار، یونہی پڑا ہوا، کاہل، بے عمل۔ قاعِدُون: جنگ کے زمانہ میں فوجی خدمت میں کام چور فوجی۔

قاعِد جمع قَوَاعِد: زیادہ عمر ہو جانے سے جننا بند کرنے والی عورت۔ قاعِدَة جمع قَوَاعِد: بنیاد (عمارت کی) بنیاد، قاعدہ (جومیٹری) مرکز (فوجی)، پایہ، موٹر وغیرہ کا نچلا ڈھانچہ، اصول اخلاق، قاعدہ، اصول، گر، فارمولا، طریقہ، طرح، نمونہ۔ قاعِدَةُ الاُسْطُول او قاعِدَةٌ بحرية: بحریہ کا مرکز۔ قاعِدَةُ البلاد: ملک کا دارالحکومت۔ قاعِدَةٌ جَوِّيَة: فضائی مرکز، قاعدة حربية: فوجی نقل و حرکت کا مرکز۔ قاعدة المُلْك: دارالحکومت۔ مساحَةُ القاعدة: تلا، پیندا، اصل سطح Basal surface۔ مُقْعَد: روکا ہوا، گرفتار کیا ہوا، لنگڑا، لنگڑا لولا۔ معذور۔ اپاہج۔ مُتَقَاعِد: ریٹائرڈ، پنشنر۔

قعر ۱۔ قَعَرَ ۔ قَعْرًا ہ: کو پچھاڑنا تَقَعَّرَ: بچھڑنا، منقلب ہونا۔ اِنْقَعَرَ: مرنا۔

۲۔ قَعَرَ ۔ قَعْرًا البئرَ: کنویں کی گہرائی میں اترنا، کو گہرا کرنا۔ ۔ الاناءَ: برتن کا سب کچھ پی لینا۔ ۔ الشجرةَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ قَعُرَ ۔ قَعَارَةً الماءُ: پانی بہت گہرائی میں ہونا۔ قَعَّرَ البئرَ: کنویں کو گہرا کرنا۔ ۔ الشیئَ: کو گہرا بنانا۔ الشیئُ: گہرا ہونا۔ ۔ الرجُلُ: چیخنا۔ ۔ فی کلامه: حلق سے بولنا۔ اَقْعَرَ البئرَ: کنویں کو گہرا کرنا۔ ۔ النجمُ: ستارے کا برتن وغیرہ کے پیندے میں ظاہر ہونا۔ تَقَعَّرَ: گہرا ہونا۔ ۔ فی کلامه: حلق سے بولنا۔ انقَعَرَ: اکھڑنا۔ القَعْرُ (مص) ج قُعُورٌ: بڑا پیالہ، پست زمین۔ ۔ من کل شیی: گہرائی۔ ۔ قَعْرُ الفَمِ: منہ کا اندرونی حصہ، کہا جاتا ہے رَجُلٌ بَعِیْدُ القَعْرِ: فلاں آدمی بہت گہرا ہے، نمونہ کے لئے کہا جاتا ہے۔ مَافِیْ هٰذا القَعْرِ مِثْلُهٗ: یعنی اس شہر میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے: جَلَسَ فُلَانٌ فِیْ قَعْرِ بَیْتِهٖ: کنایہ ہے ہمیشہ گھر میں رہنے سے القُعْرَةُ: پست زمین، ۔ والقَعْرة: جو چیز پیالہ کے گڑھے کو چھپالے۔ اِنَاءٌ قَعْرَانٌ: زیادہ گہرا برتن قدحٌ قَعْرانٌ: گہرا برتن قَصْعَةٌ قَعْرٰی: پیالہ جس میں کوئی چیز ہو جو اس کے گڑھے کو چھپالے۔ القَعُورُ والقَعِیْرُ: زیادہ گہرائی والا۔ المِقْعَار: حلق کی گہرائی سے بولنے والا۔ اِنَاءٌ مِقْعار: بہت گہرا برتن، قعبٌ مِقعارٌ: چوڑا اور گہرا پیالہ۔ القَیْعَر و القَیْعار: حلق سے بولنے والا۔ المُقَعَّرُ: گہرا۔ ۔ من الخطوط: دھنسی ہوئی لکیریں۔

۳۔ قَعَرَ ۔ قَعْرًا ت الشاةُ: بکری کا ناتمام بچہ گرانا۔ قَعَّرَتَ الشاةُ: بکری کا ناتمام بچہ گرانا۔

۴۔ القَعْرُ ج قُعُورٌ: عقل کامل۔

○ قَعُرَ ۔ قَعَارَةً: گہرا ہونا، کھود کر یا کھوکھلا کر کے بنایا جانا۔ قَعَّرَہ: کو گہرا کرنا یا زیادہ گہرا کرنا، کو کھود کر یا کھوکھلا کر کے بنانا، کو کھوکھلا کرنا، کھودنا۔ ۔ چیخنا، چلانا۔ قَعَّرَ فی کلامه: حلقی آواز سے بولنا۔ اَقْعَرَہ (کنواں) گہرا کرنا، زیادہ گہرا کرنا۔ تَقَعَّرَ: گہرا ہونا، نیچا ہونا، دبا ہوا ہونا، بیٹھا ہوا ہونا، کھدا ہوا ہونا، کھوکھلا کیا ہوا ہونا، پیندے تک اترا ہوا ہونا، مجوف ہونا مُقَعَّر ہونا قَعْر جمع قُعُور: تہ، پیندا، گہرائی، جہاز کے پیندے کا شہتیر، گڑھا، جوف، خلا، نشیب۔ من القعر صاعدًا: تہ سے اوپر۔ قعرة: گڑھا، جوف، خلا، نشیب قَعُور: گہرا، قَعِیر: گہرا۔ مُقَعَّر: دبایا ہوا، نیچا، گہرا، کھوکھلا، مجوف۔ مُقَعَّر: مڑا ہوا، جھکا ہوا، غیر واضح (زبان)۔

قعس ۱۔ قَعَسَ ۔ قعسًا: سینہ ابھار کر اور پیٹھ دھنسا کر چلنا۔ ۔ الشیئَ: کو موڑنا۔ قَعَسَ ۔ قَعَسًا: بتکلف سینہ ابھار کر پیٹھ دھنسا کر چلنا۔ قَعِسَ ۔ قَعَسًا: سینہ نکلا اور پیٹھ دھنسا ہونا صفت قَعِسٌ ج قُعْسَانٌ و اَقْعَسُ مونث قَعْسَاءُ ج قُعْسٌ ۔ تَقَاعَسَ: سینہ نکالنا۔ ۔ فلانٌ: سینہ نکالنے والے کے مشابہ ہونا۔ بَعِیْرٌ اَقْعَسُ: سر پیٹھ اور گردن جھکا ہوا اونٹ، فَرَسٌ اَقْعَسُ: پست پیٹھ کا گھوڑا۔

۲۔ اَقْعَسَ: مالدار ہونا۔

۳۔ تَقَاعَسَ العزُّ: عزت کا پائیدار ہونا۔ الاَقْعَسُ مونث قَعْسَاءُ ج قُعْسٌ: مضبوط عِزٌّ اَقْعَسُ: عزت ثابت، عِزَّةٌ قَعْسَاءُ: عزت پائیدار۔ لَیْلٌ اَقْعَسُ: لمبی رات۔ المُقْعَنْسِسُ ج مَقَاعِسُ و مَقَاعِیْسُ: سخت، ممتنع۔

۴۔ تَقَاعَسَ عن الامر: سے پیچھے ہٹنا۔ ۔ الفرسُ وغیرُہ: ہانکنے والے کے تابع نہ ہونا۔ اِقْعَنْسَسَ الرجُلُ: پیچھے ہٹنا، پیچھے پلٹنا۔

۵۔ القُعَاسُ: ایک بیماری ہے جس سے بکریاں بہت مرتی ہیں۔

۶۔ تَقَعْوَسَ الشیخُ: بہت بوڑھا ہونا۔ ۔ البیتُ: گرنا۔ ۔ الرجُلُ عن الامر: سے پیچھے ہٹنا اور آگے نہ بڑھنا۔ القَعْوَسُ: بہت بوڑھا، مضبوط پیٹھ والی چیز۔

۷۔ قَعْسَرَ قَعْسَرَةً ہ: کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ۔ الشیئُ: سخت ہونا۔ ۔ علیه: پر قوی ہونا۔ القَعْسَری (ح): مضبوط بھاری بھرکم اونٹ، چکی کا ہتھا۔ عِزٌّ قَعْسَرِیٌّ: قدیم عزت، اصلی عزت۔

○ قَعِسَ ۔ قَعَسًا: ابھرے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پشت والا ہونا، کبوتر سینہ ہونا۔ تقاعَس عن: سے علیحدہ رہنا، دور رہنا، باز رہنا، کو کرنے سے ہچکچانا، پر آمادہ نہ ہونا، کو کرنے میں ناکام ہونا، غفلت کرنا، میں دلچسپی نہ لینا۔ اِقْعَنْسَسَ: ابھرے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پشت والا۔ عِزٌّ اَقْعَس: پائیدار اقتدار۔ تقاعُس: بے پروائی، غفلت۔ مُتَقَاعِس: بے پرواہ، غافل، ست، ہچکچانے والا، متذبذب، متامل، پس و پیش کرنے والا۔ غیر آمادہ۔ نارضامند، بیدل، بے ہمت، بے وزن۔

○ قَعْقَعَ قَعْقَعَةً: کھنکھنانا۔ کھڑکھڑانا۔ جھن جھن کرنا۔ جھنک یا جھنکار پیدا کرنا قَعْقَع و قُعَقِع: بکواسی، بکی، یاوہ گو۔ قَعْقَعَة: کھنکھناہٹ، کھڑکھڑاہٹ، جھن جھن، جھنک، جھنکار، کھنکھناہٹ، ٹھن ٹھن، شور، غل، شور و غوغا، غل غپاڑہ جمع قَعَاقِع: اونچی آواز نکالنے والے الفاظ۔

قعش ۱۔ قَعَشَ ۔ قَعْشًا الشیئَ: کو جمع کرنا۔ ۔ الحائطَ: دیوار گرانا۔ اِنْقَعَشَ: گرنا۔ ۔ القوم: جانا۔ القَعْشُ (مص) ج قُعُوشٌ: ہودج کی مانند عورتوں کی سواری۔

۲۔ قَعْوَشَ ہ: کو پچھاڑنا۔ ۔ البناءَ: اکھیڑنا۔ تَقَعْوَشَ البیتُ: گرنا۔ ۔ الجذعُ: جڑ کا جھکنا۔

قعص ۱۔ قَعَصَ ۔ قَعْصًا و اَقْعَصَ ہ: کو جگہ پر قتل کرنا، جگہ پر مار دینا۔ قُعِصَ ۔ قَعَصًا ت الشاةُ: کو قعاص

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کی بیماری لگنا۔ اِنْقَعَصَ: جگہ پر ہی مرنا۔ القُعْصُ (مص). فی الفورموت، منہدم شدہ مکان۔ القُعَاصُ (طب): ایک بیماری جس سے بکریاں جلد مرجاتی ہیں۔ بیماری جو سینہ میں ہوتی ہے اور گردن توڑ دیتی ہے۔ القَعَّاصُ والمِقْعَصُ والمِقْعَاصُ. شیر جو شکار کو فوراً مارڈالے۔

۲۔ قَعِصَ ـــ قَعَصَات الشاۃُ: قعوص والی ہونا۔ القَعُوصُ: دودھ دوہنے والے کو مارنے اور دودھ نہ دینے والی بکری۔

۳۔ اِنْقَعَصَ الشیئُ مڑنا۔

قعض: قَعَضَ ـُ قَعْضًا الغُصْنَ شاخ کو موڑنا۔ اِنْقَعَضَ جھکنا۔ القَعْضُ (مص) جھکا ہوا، کہا جاتا ہے۔ عُوْدٌ قَعْضٌ جھکی ہوئی لکڑی یہ وصف بالمصدر ہے۔

قعط ۱۔ قَعَطَ ـ قَعْطًا بہت چیخنا۔ ـ فلانًا: کو دھکا دینا، پچھاڑنا۔ ـ علیہ: پر غضب ناک ہونا۔ قَعِطَ ـَ قَعْطًا: ذلیل ہونا۔ قَعَّطَ فی القول. بے ہودہ بکنا۔ اَقْعَطَ: سخت چیخنا۔ ـ ہٗ: کی اہانت کرنا، کو ذلیل کرنا۔ ـ فی القول بے ہودہ بکنا۔

۲۔ قَعَطَ ـَ قَعْطًا الشیئَ: کو ضبط کرنا۔ ـــ العمامۃَ: سر پر پگڑی باندھنا۔ و قَعَّطَ الدابّۃَ: چوپایہ کو تیز ہانکنا صفت۔ قَعَّاطٌ ـ علی غریمہ قرضدار پر سختی کرنا۔ اَقْعَطَ فی اثرہ: کے پیچھے دوڑنا۔ اِقْتَعَطَ العمامۃَ: سر پر پگڑی باندھنا۔ القَاعِطُ (فا) قرض دار پر سختی کرنے والا۔ المِقْعَطُ ـ والمِقْعَطَۃُ: عمامہ، پگڑی جو سر پر باندھی جائے۔

۳۔ قَعِطَ ـَ قَعْطًا بزدل ہونا۔

۴۔ قَعَطَ ـَ قَعْطًا عن وجہہ: چہرہ کھولنا۔ اَقْعَطَ القومُ عنہ: سے علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ تَقَعَّطَ و اِنْقَعَطَ السحابُ بادل کا کھل جانا۔

۵۔ قَعَطَ ـَ قَعْطًا خشک ہونا۔ القَعَّاطُ والمُقْعِطُ سخت قسم کا گھمنڈی۔

۶۔ القَعْطُ بہت بکریاں۔

۷۔ قَعْطَبَ الشیئَ کو کاٹنا۔

۸۔ قَعْطَرَ ہٗ کو پچھاڑنا، مضبوط باندھنا۔ ـــ الاناءَ: برتن بھرنا۔ اِقْعَطَرَّ کا سانس منقطع ہونا۔

۹۔ قَعْطَلَ ہٗ: کو پچھاڑنا، ـــ علیٰ غریمہ. قرضدار سے قرض کے مطالبہ میں سختی کرنا۔ القَعْطَلُ تیز، جلد باز۔

قعف ۱۔ قَعَفَ ـَ قَعْفًا التراب: تیز دوڑنے کی وجہ سے غبار اڑانا۔ ـــ النخلۃَ: کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھاڑنا۔ ـــ ما فی الاناء: برتن کا سب کچھ پی لینا۔ المطرُ الحجارۃَ: بارش کا پتھر کو بہالے جانا۔ قَعِفَ ـَ قَعَفًا الحائطُ: دیوار کا گرنا۔ تَقَعَّفَ و اِنْقَعَفَ الحائطُ دیوار کا جڑ سے منہدم ہونا۔ ـــ الجُرُفُ: وادی کے کناروں کا گرنا۔ ـــ الشیئُ: اپنی جگہ سے زائل ہونا۔ اِقْتَعَفَ الحائطُ والجُرُفُ والشیئُ بمعنی تَقَعَّفَ۔ الشیئَ: کو حرص سے لے لینا۔ القَاعِفُ (فا): سخت بارش۔ سَیْلٌ قُعَافٌ سب کچھ بہالے جانے والا سیلاب۔

۲۔ القَعَفُ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو سلسلہ وار ہوں۔ ایک دوسرے پر ہوں۔

۳۔ قَعْفَزَ الرجُلُ: اکڑوں بیٹھنے والے کی طرح بیٹھنا۔ ـ فی المشی: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ ـــ لہٗ الکلامَ کسی کو سخت کلامی سے اپنے آپ سے ہٹانا۔ تَقَعْفَزَ الرجُلُ: بیٹھنا۔ اِقْعَنْفَزَ اس شخص کی بیٹھک بیٹھنا جو کودنے کو تیار ہو۔

قعل ۱۔ اَقْعَلَ واِقْعَالَّ اِقْعِلَالًا النَوْرُ شگوفہ نکلنا۔ اِقْتَعَلَ القُعَالَ: شگوفہ کو دور کرنا۔ القُعَالَۃُ: القُعَالُ: کا مونث شگوفہ جو جھڑ جائے، اونٹ کا گرا ہوا اون۔

۲۔ اِقْعَالَّ الراکبُ سوار کا سیدھا ہونا۔

قعم ۱۔ قَعَمَ ـُ قَعْمًا السِنَّورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ اَقْعَمَ ت الشمسُ آفتاب کا بلند ہونا۔

۲۔ قُعِمَ ـَ قَعَمًا الرجُلُ: بیمار ہو کر فوراً مرنا۔ اَقْعَمَ ت الحیۃُ فلانا: کو سانپ کا ڈسنا اور فوراً مار ڈالنا۔ اُقْعِمَ الرجُلُ بیمار ہو کر فوراً مرنا۔

۳۔ القَعَمُ ناک میں جھکاؤ۔ الاَقْعَمُ: ناک میں جھکاؤ والا۔ قُعْمَۃُ المَالِ عمدہ مال۔

۴۔ القُعْمُوْطُ والقُعْمُوْطَۃُ ج قَعَامِیْطُ چھوٹے بچے کے گرد لپیٹنے کا کپڑا۔

قعن: قَعِنَ ـَ قَعَنًا الانفُ: ناک کا چپٹا ہونا یا بانسہ بلند ہونا صفت اَقْعَنُ مونث قَعْنَاءُ ج قُعْنٌ اور تصغیر قُعَیْنٌ۔ القَعْنُ: آٹا گوندنے کا بڑا برتن۔

قعی ۱۔ قَعِیَ یَقْعٰی قَعًا: کے بانسہ کا بلند ہونا پھر جھکنا صفت۔ اَقْعٰی مونث قَعْوَاءُ ـ اَقْعٰی انفُہٗ: کی ناک کا بلند بانسہ والی ہونا۔ الکلبُ: کتے کا چوتڑ پر بیٹھنا۔ ـ فرسہٗ گھوڑے کو پچھلے پاؤں لوٹانا۔

۲۔ القَعْوُ ج قُعِیٌّ لوہے کا دھرا جس پر چرخی گھومتی ہے۔ القَعْوَان ج قُعِیٌّ: دو لکڑیاں یا لوہے کے ٹکڑے جن میں دھرا ہو یا ان کے درمیان چرخی گھومتی ہو۔ القَعْوَۃُ ج قُعی (ع ا) ران کی جڑ۔

قفّ ۱۔ قَفَّ ـُ قُفُوْفًا العشبُ او الشجرُ: گھاس یا درخت [illegible] ہونا [illegible] الارض [illegible] ہونا ـ الشیئُ: سمٹنا، سکڑنا۔ ـ الثوبُ: کپڑے کا دھونے کے بعد خشک ہونا۔ اَقَفَّ خشک چراگاہ پانا۔ اِسْتَقَفَّ: سمٹنا، سکڑنا۔ القُفُّ ج قِفَافٌ و اَقْفَافٌ: پست قد، چٹانی زمین سلسلہ وار کہ جس کے درمیان نرم زمین نہ ہو۔ القَفُّ: خشک سبزی۔ القُفَّۃُ ج قُفَفٌ: خشک درخت خشک کدو۔ کدو کی شکل کی زنبیل ـــ والقَفَّۃُ من الرجال: پست قد، کمزور۔ القِفَّۃُ: اسم نوع۔ القَفِیْفُ خشک سبزی۔

۲۔ قَفَّ ـُ قُفُوْفًا الشَعَرُ شدت خوف سے رونگٹے کھڑا ہونا۔ القَفَّۃُ والقِفَّۃُ والقُفَّۃُ: بخاری کی وجہ سے کپکپی۔

۳۔ قَفَّ ـُ قُفُوْفًا الصیرفیُّ صراف کا دو انگلیوں کے درمیان دراہم کو چرانا۔ القَفَّاف: انگلیوں کے درمیان درہم چرانے والا صراف

۴۔ اَقَفَّ ت الدجاجۃُ: مرغی کا انڈے دینے سے رکنا۔ ـ ت العینُ: کے آنسو خشک ہو جانا۔

۵۔ القُفّ ج قِفَافٌ و اَقْفَافٌ: چیز کا بیرونی حصہ، کلہاڑی کا سوراخ، کلہاڑی کے مانند ایک چیز، بلند زمین، پہاڑ کی مانند سیاہ بادل ـ من الناس مختلف قسم کے لوگ۔ قُفُّ البئر: کنویں کے اردگرد کا چبوترہ۔ القُفَّۃُ ج قُفَفٌ: کھجور کی پتیوں کی ٹوکری، کلہاڑی کی مانند ایک چیز، بلند زمین۔ القِفَّۃُ نوزائیدہ بچے کا پہلا پاخانہ۔ القَفَّانُ: امانت دار۔ کہا جاتا ہے اَتَیْتُہٗ عَلٰی قَفَّانِ ذَالِکَ: میں اس کے پاس اس کے پیچھے پیچھے آیا، اور کہا جاتا ہے۔ ھٰذَا قَفَّانُہٗ: یہ اس کا وقت ہے۔

۶۔ قَفْقَفَ قَفْقَفَۃً و تَقَفْقَفَ سردی وغیرہ سے کانپنا۔ ـ النبتُ: فصل کا خشک ہونا۔ قَفْقَفَا الطائرِ: پرندہ کے دونوں بازو ـ البعیرِ اونٹ کے دونوں جبڑے۔

قفئ: قَفِئَ ـَ قَفْأً المکانُ: جگہ کا بارش یا مٹی پڑ جانے کی وجہ سے تباہ شدہ پودوں والی ہونا اِقْتَفَأَ الخرزَ: توشہ دان وغیرہ کی سلائی دوبارہ کرنا

قفث: قَفْثَلَ الشیئَ: کو جلدی سے لے جانا۔

قفح: قَفَحَ ـَ قَفْحًاہٗ: کو ناپسند کرنا اور چھوڑ دینا۔ ـــ الشیئَ: کو دوا کی طرح پھانکنا۔ عن الشیئِ: سے باز رہنا۔ القَفِیْحَۃُ بھن جس پر بکری کا دودھ دوہا جائے۔

قفخ: قَفَخَ ـَ قَفْخًا و قِفَاخًاہٗ: کو مارنا، (کھوکھلی یا خشک چیز یا سر پر ہی مارنے کے لئے مستعمل ہے۔) القَفِیْخَۃُ ایک قسم کا کھانا۔

قفد ۱۔ قَفَدَ ـِ قَفْدًا الرجُلُ کام کرنا، کہا جاتا ہے۔ مَازِلْتُ اَقْفِدُ لَکَ مُذِالیَوْمِ: میں آج کے دن

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تمہارے لیے کام کرتا رہا۔

۲۔ قَفَدَ ـِ قَفدًا ہٗ: کی گدی پر تھپڑ مارنا۔

۳۔ قَفَدَ ـِ قَفدًا: بغیر شملہ لٹکائے ہوئے پگڑی باندھنا، کہا جاتا ہے اِعْتَمَّ القفداءَ او القفدَ: اس نے بغیر شملہ لٹکائے ہوئے پگڑی باندھی۔

۴۔ قَفِدَ ـَ قَفدًا: ڈھیلی یا موٹی گردن والا ہونا۔ الاَقْفَدُ: مونث قَفْدَاءُ: ڈھیلی یا موٹی گردن والا، پنجوں کے بل چلنے والا، موٹے ہاتھ پاؤں اور چھوٹی انگلیوں والا۔

۵۔ الـقـفـدانُ و القفدانۃُ: سرمہ دان کا غلاف، چمڑے کی تھیلی جس میں خوشبو وغیرہ رکھتے ہیں (فارسیہ)

ف قفۃ جمع قفف: بڑا ٹوکرا، گول کشتی، قـفۃ و قفۃ: بخار سے طاری کپکپی، لرزہ، تپ لرزہ، جاڑے کا بخار۔

قفر: ۱۔ قَفَرَ ـُ قَفرًا و تقفرَ و اِقتفرَ الاثرَ: کے پیچھے جانا، کو تلاش کرنا۔

۲۔ قَفِرَ ـَ قَفَرًا مالُہٗ: کا مال کم ہونا صفت قَفِرُ المَالِ ـ الطعام: کھانا بغیر سالن کے ہونا۔ اَقْفَرَ الرجُلُ: بے کھانا ہونا، بے سالن ہونا۔ بے آب و گیا جنگل کی طرف جانا۔ ـ المکانُ: گھاس پانی اور آدمی سے خالی ہونا۔ ـ الرجُلُ: بھوکا ہونا، بے سالن کے روٹی کھانا۔ ـ الرجُلُ من اھلہ: سے اکیلا ہونا۔ ـ راسُہٗ من الشعَرَ: سر کا بالوں سے خالی ہونا۔ ـ البلدَ: شہر کو خالی پانا۔ ـ العظمَ: ہڈی چچوڑ کے صاف کر دینا۔ اِقتـفرَ العظمَ: ہڈی کو چوسنا۔ الـقـفـرُ ج قِفارٌ و قُفُورٌ: گھاس پانی اور آدمی سے خالی زمین کہا جاتا ہے۔ اَرضٌ قـفـرٌ و ارضٌ قِفـارٌ: بے آب و گیاہ چٹیل میدان، اور کہا جاتا ہے۔ نَزَلْنـا بِبَنی فلانٍ فبِتنا الـقـفـرَ: یعنی ہم فلاں خاندان کے پاس اترے اور انہوں نے ہماری مہانداری نہیں کی، و بـــاتَ فلانٌ الـقـفـرَ و الوَحْش: یعنی فلاں کی مہانداری نہیں کی گئی۔ الـقَفُرُ: بیل جو کھیتی کرنے کیلئے ماں سے جدا کر لیا جائے۔ خُبزٌ قَفرٌ و قفارٌ: بغیر سالن کے روٹی کہا جاتا ہے۔ اَکَلَ خُبزَہٗ قَفارًا: اس نے بغیر سالن کے روٹی کھائی۔ الـقَفَرُ (مص): بال۔ الـقَفِرُ: کم بال والا۔ (ح): بھیڑیا۔ الـقَـفَـرَۃ ج قَفَرَاتٌ: گھاس، پانی، آدمی سے خالی زمین۔ الـقَـفِیرُ ج قُفرَانٌ: بغیر سالن کے روٹی، کہا جاتا ہے۔ اَرضٌ مِـقْـفَـارٌ: خالی زمین۔

۳۔ قَفرَ الترابَ و نحوَہٗ: مٹی وغیرہ جمع کرنا۔ القَافُورُ والـقَـفُـورُ والـقعفورَۃ: کھجور کے شگوفہ کا غلاف۔ القَفِیرُ ج قُفرانٌ: ٹوکری، شہد کا چھتہ (عامیۃ)۔

ف اَقْــفَـرَ: خالی ہونا یا ہو جانا، بے رنگ، بے کیف، بے لطف ہونا، یا ہو جانا، اجاڑ، سنسان، غیر آباد، نا قابل، سکونت ہونا یا ہو جانا، متروک ہونا یا ہو جانا، آبادی کا گھٹنا یا گھٹ جانا، برباد ہونا یا ہو جانا، ویرانہ ہو جانا۔ ـ من: سے محروم ہونا، خالی ہونا، بدنصیب ہونا۔ ـ ہ: کو برباد کرنا، کی آبادی کم کرنا، تباہ و برباد کرنا، ویران کرنا، بے آباد کرنا، اجاڑنا، مکان یا شہر کو ترک کرنا، کو ویرانی کی حالت میں چھوڑنا۔ ـ ہ (ہڈی) کا گوشت اتارنا۔ اقتـفـرہ: کا کھوج لگانا، کے قدموں کے نشان کا پیچھا کرنا۔ قَـفَـرَ اثـرَہ: بمعنی بالا۔ قـفـر جمع قِـفـار: ریگستان، بیابان، بنجر زمین، غیر آباد، اجاڑ، سنسان علاقہ خالی، بے کیف، بیکس، تن تنہا، ترک کیا ہوا، بے جان، مردہ، اجاڑ، تباہ شدہ، بنجر۔ ـ من: سے محروم۔ ارضٌ قـفـر او قِـفـار: بیابان، اجاڑ زمین۔ خبز قَفُر: خشک روٹی، سادہ روٹی۔ قـفرۃ جمع قـفرات: ریگستان، بیابان، اجاڑ، غیر آباد علاقہ۔ بادِیَۃ قَفراء: بے آب و گیاہ بیابان، ریگستان۔ مُـقـفِـر: خالی، بے جان، غیر آباد، برباد شدہ، اجاڑ، سنسان، بے رنگ، بے کیف، بیکس، تن تنہا۔ ـ من: سے محروم۔

قفز: ۱۔ قَفَزَ ـِ قَفزًا و قَفَزَانًا و قِفَازًا و قُفُوزًا: مرنا۔

۲۔ قَـفَـزَ ـِ قَفزًا و قَفَزَانًا و قِفَازًا و قُفُوزًا الغزالُ: ہرن کا اچھلنا، کودنا۔ قَفَّزَ ہٗ: کو کدانا۔ تَـقَافَزَ القومُ: باہم کودنا۔ الـقَـافِزَۃُ ج قَوَافِزُ، القافز کا مونث، تیز رفتار گھوڑا۔ (ح) مینڈک۔ الـقَـفَـزَی: اچھل کود کہا جاتا ہے۔ عَـدَتِ الخَیلُ القَفَزَی: یعنی گھوڑے کود کود کر دوڑے۔ القَفَّازُ: بہت کودنے والا۔ القفیزَی: بچوں کا ایک کھیل کہ لکڑی گاڑ کر اس پر کودتے ہیں۔

۳۔ قَـفِـزَ ـَ قَفَزًا الفرسُ: گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں گھٹنے تک سفیدی ہونا۔ تَـقَـفَّـزَ بالحناء: ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی سے نقش و نگار کرنا۔ القُفَّازُ ج قَفَافِیزُ: عورتوں کے ہاتھ پاؤں کا زیور، دستانہ، عوام کفوف کہتے ہیں۔ الاَقفَزُ والمُقفزُ من الخیل: اگلی ٹانگوں میں گھٹنوں تک سفید گھوڑا۔

۴۔ القَفِیزُ ج اَقفِزَۃ و قُفزَانٌ: ایک پیمانہ کا نام۔ ـ من الارض: ایک سو چوالیس گز۔

قفس: ۱۔ قَـفَـسَ ـِ قَفسًا و قُفُوسًا الشیئَ: کو ناجائز طور پر زبردستی پکڑنا۔ فـلانًا: کے بال پکڑ کر نیچے کھینچنا۔ تَـقَـفَّـسَ الظبیُ: ہرن کا چھلانگ مارنا۔ تَـقَـافَـسَ الـرجـلانِ بشـعـورِ ھما: کود کر ایک دوسرے کے بال پکڑنا۔ القَافِسَۃُ، القَافِسُ کا مونث کمینے لوگ۔

۲۔ قَفَسَ ـُ قُفسًا و قُفُوسًا: مرنا۔

۳۔ قَفَسَ ـُ قُفَاسًا: تشنج جیسی جوڑوں کی بیماری والا ہونا۔ قَفَسًا الظبیَ: ہرن کی اگلی پچھلی ٹانگوں کو باندھ دینا۔

۴۔ قَفِسَ ـَ قَفَسًا: کے بانسہ کے کنارے کا بڑا ہونا۔

۵۔ القَافِسَۃُ: کمینے لوگ۔ قَفَاسِ، مبنی علی الکسر: کمینی لونڈی۔ الاَقْـفَـسُ: لونڈی کا بچہ، ہر وہ چیز جو لمبی اور جھکی ہوئی ہو۔ عَبْدٌ اَقْفَسُ: کمینہ غلام۔ القَفسَاءُ (الاقفس کا مونث) کمینی لونڈی، معدہ یا پیٹ۔

قفش: ۱۔ قَـفَـشَ ـِ قَفشًا الطعامَ: کو بہت حرص سے کھانا۔ الناقۃَ: اونٹنی کو تیز دوہنا۔ ـ مافی الضرعِ: دودھ کو جلد ختم کر دینا۔ القفش (مص) نشاط۔

۲۔ قَفَشَ ـِ قَفشًا ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

۳۔ قَفَشَ ـِ قَفشًا و قُفُوشًا: مرنا۔

۴۔ قَـفَشَ ـُ قَفشًا الشیئَ: کو لینا اور جمع کرنا۔ اِنْقَفَشَ واِقتَفَشَ و اِقْفَنْشَشَ العنکبوتُ ونحوُہٗ: مکڑی وغیرہ کا سمٹ کر بیٹھنا۔

۵۔ الـقَـفَـشُ: چھوٹا چرمی موزہ (فارسیہ) الـقَـفَـشُ: چور۔ (جمع)

ف قَـفَـزَ ـِ قَفزًا و قَفَزَانًا: اچھلنا، کودنا، چھلانگ لگانا۔ تَـقَـفَّـزَ: دستانے پہننا۔ قَـفـز: چھلانگ لگانا، کودنا، پھلانگنا۔ الـقفز علی الحبل: رسی پھلانگنا۔ القفز بالزانۃ: بانس پر ہاتھ رکھ کر کودنا۔ قفز طویل: چوڑی یا طویل چھلانگ۔ قـفـز عــالٍ: بلند جست، اونچی چھلانگ۔ قَفزۃ جمع قَفَزَات: چھلانگ، کود، پھلانگ، قـفاز جمع قـفّـازات و قَفَافِیز: دستانہ، دستانوں کا جوڑا۔ قَـفِـیز جمع اَقْـفِـزَہ: ایک خشک اشیاء ناپنے کا پیمانہ۔ مَقفِز تختہ، جست، تختہ وزقند۔

ف قَـفَـشَ ـِ قَفشًا ہ: کو دریافت کرنا، کا انکشاف کرنا قَـفُش: بچوں کی سی باتیں، بک بک۔ قَفَشات: ہنسی مذاق۔

قفص: ۱۔ قَـفَـصَ ـِ قَفصًا الظبیَ: ہرن کی ٹانگیں باندھنا۔ الشیئ: کو قریب قریب رکھنا۔ ـ الیعسوبَ: شہد کی مکھیوں کے بادشاہ کو دھاگے سے باندھ کر چھتے میں رکھنا۔ قَـفِصَ ـَ قَفَصًا: سکڑنا۔ سردی سے سن ہونا صفت۔ قَـفِـصٌ قَفَّصَ الظبیَ: ہرن کی ٹانگیں باندھنا۔ اَقْفَصَ الرجُلُ: پنجرے والا ہونا۔ تقفصَ: اکٹھا ہونا۔ تَقَافَصَ: مخلط ہونا۔ اکٹھا ہونا۔ القَافِصَۃُ ج قَوَافِصُ۔ الـقـافـص کا مونث۔ الـقُـفُـصُ والقَفُصُ: مخلط۔ القَفَصُ: مخلط ـ ج اَقْفَاصٌ: پنجرا، غلہ وغیرہ رکھنے کا برتن۔ الـقُفَاصُ: ایک بیماری جو جانوروں کو لاحق ہوتی ہے جس پر ان کی ٹانگیں خشک ہو جاتی ہیں۔ ثَـوبٌ مُـقَـفَّـصٌ (مفع): پنجرے کی طرح منقش کپڑا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ قَفَصَ ـِ قَفْصًا الرجُلَ کو تکلیف دینا۔

۳۔ قَفِصَ ـَ قَفَصًا: ہلکا پھلکا ہونا۔ ــ الفرسُ: پوری دوڑ سے نہ دوڑ نا صفت قَفِصٌ۔ القُفَاصُ (ح): پہاڑی بکرا۔

۴۔ القَافِصَةُ: کمینے لوگ

قفع ۱۔ قَفَعَ ـَ قَفْعًا ہُ بالمقفعۃ: کو چھڑی سے مارنا۔ ــ ہُ عن کذا: کو سے منع کرنا۔ اِنْقَفَعَ عنہ: سے باز رہنا۔ القَفَّاعُ: اسم مبالغہ۔ المِقْفَعَةُ: ہاتھ یا انگلی پر مارنے کی چھڑی۔

۲۔ قَفِعَ ـَ قَفَعًا تِ الاذنُ: کان کے اطراف کا سکڑ نا۔ صفت قَفْعَاءُ: اور ایسے کان والے کو اقفع کہتے ہیں۔ ــ تِ الرِجْلُ: کی انگلیوں کا قدم کی جانب مڑا ہونا۔ ــ ت الشاۃ: چھوٹی دم والی ہونا۔ قَفَعَ الشیئَ: کو برتن میں رکھنا۔ البردُ اصابعہ: سردی کا انگلیوں کو خشک اور سکیڑ دینا۔ تَقَفَّعَ ت الاذنُ والرجلُ والشاۃ: بمعنی قَفِعَتْ۔ ــ الشیئُ: سکڑ نا سمٹنا۔ اِنْقَفَعَ النباتُ: نباتات کا خشک اور سخت ہونا۔ القَفْعُ واحد قَفْعَةٌ (اع): ایک جنگی آلہ جس کو حصار کے موقع پر استعمال کرتے تھے اور اس کے اندر داخل ہو کر قلعہ کی دیوار تک پہنچ کر اس میں سوراخ کرتے تھے۔ القَفَعُ (مص): تنگی، تھکن۔ القَفْعَةُ ج قِفْعَاءُ وقَفَعَاتٌ: نیچے سے کشادہ اور تنگ منہ کی ٹوکری۔ القُفَاعُ والقُفَّاعُ: ایک بیماری جو بکریوں کو لاحق ہوتی ہے جس سے ان کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ الاَقْفَعُ مونث قَفْعَاءُ ج قُفْعٌ: سکڑے ہوئے کان والا، مڑی ہوئی انگلیوں والا، ہمیشہ سر جھکائے رکھنے والا، چھوٹی دم والا۔ القَفْعَاء (ن): انگوٹھی کے مانند حلقے والی ایک بوٹی، جس کے دونوں کنارے ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ شاۃٌ قَفْعاء: چھوٹی دم والی بکری المُقَفَّعُ: ہمیشہ سر جھکائے رکھنے والا۔ ــ رجُلٌ مُقَفَّعُ الیَدَیْنِ: سکڑے ہوئے ہاتھوں والا مرد عوام، مقفوع کہتے ہیں۔

۳۔ القَفْعَةُ: ٹڈی دل۔ القُفَّاعَةُ: ایک قسم کا پھندا جو کھجور کی شاخ سے بناتے ہیں اور اس سے پرندے کا شکار کرتے ہیں۔

○ قَفَصٌ جمع اَقْفَاص: پنجرہ، قفس، مرغیوں کا ٹوکرا، ٹاپا، ڈربہ، ٹوکری (کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی) چھاتی، سینہ، ملزم کا کٹہرا۔ قَفَصُ الاِتّھام: ملزم کا کٹہرا۔ تقفیصۃ: مرغیوں، بطخوں کا ڈربہ۔

○ قُفْطان جمع قَفَاطِین: ترکی چوغہ۔

○ ففقاس: کوہ قاف۔

○ قَفَعَ ـَ قَفْعًا: سکڑ نا، چرمر ہو جانا، جھریاں یا شکن ڈالا ہوا ہو جانا۔ قَفَّعَ ہ: سردی کا انگلیوں کو چرمر کر دینا۔ تَقَفَّعَ: بمعنی قَفِعَ قَفَعٌ: سپر بندگاڑی یا آڑ۔ (محاصرے کی کارروائی کے دوران مستعمل)۔

قفل ۱۔ قَفَلَ ـِ قَفْلًا و قُفُولًا: سفر سے لوٹنا۔ ــ الامیرُ الجندَ: امیر کا فوج کو لوٹانا۔ اَقْفَلَ الجیشُ: فوج کا لوٹنا، واپس آنا ــ القومَ: کو پیچھے سے دیکھتے رہنا۔ اقفلھم عن مبعثھم: کو لوٹانا۔ اِنْقَفَلَ الغزاۃُ: غازیوں کا واپس ہونا۔ ــ الرجُلُ: جس کام میں ہوا سے کر گزرنا۔ القَافِلُ ج قَافِلَةٌ و قُفَّالٌ: لوٹنے والا۔ القَافِلَةُ ج قَوَافِلُ: القافل کا مونث، سفر سے لوٹنے والے رفقاء یا سفر شروع کرنے والے، ان پر بھی تفاولا قافلہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ القُفُلُ: خچروں کا گلہ (عامیہ)۔ القَفَلُ (مص) اسم جمع بمعنی قافلہ۔ القَفَلَةُ: گدی، سر کا پچھلا حصہ۔

۲۔ قَفَلَ ـُ قَفْلًا و قُفُولًا و تَقَفَّلَ فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔

۳۔ قَفَلَ ـِ قَفْلًا و قُفُولًا الشیئَ کا اندازہ کرنا۔

۴۔ قَفَلَ ـِ قَفْلًا الطعامَ: خوراک گرانی میں بیچنے کے لئے جمع کرنا۔ اَقْفَلَ القومَ علی الامر: کو پر جمع کرنا۔ القُفْلُ من الغزل: دھاگے کا بنڈل (عامیہ)۔

۵۔ قَفَلَ ـِ قُفُولًا الفرسُ: لاغر ہونا صفت قَافِلٌ۔ قَفَلَ ـُ قُفُولًا و قَفِلَ ـَ قَفَلًا الجلدُ: کھال کا خشک ہونا۔ قَفَّلَ الجلدُ: کھال کا خشک ہونا اَقْفَلَ الجلدَ: کھال خشک کرنا۔ القَافِلُ (فا) ج قَافِلَةٌ و قُفَّالٌ: خشک کھال یا ہاتھ والا۔ خَیْلٌ قَوَافِلُ: دبلے گھوڑے۔ القُفُولُ (مص) والقَفْلَةُ والقَفَلَةُ: سوکھا ہوا درخت۔ القَفِیلُ: خشک درخت، کوڑا۔ ــ جِلْدٌ قَفِیلٌ: خشک کھال۔

۶۔ قَفَّلَ الابوابَ: دروازے بند کرنا۔ اَقْفَلَ البابَ و علی الباب: دروازہ پر تالا لگانا۔ ــ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ تَقَفَّلَ و اِنْقَفَلَ و اِقْتَفَلَ البابُ: دروازہ بند ہونا۔ اِسْتَقْفَلَ البابُ: دروازہ بند ہونا۔ ــ الرجلُ: بخل کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِسْتَقْفَلَتْ یداہُ فھو مُسْتَقْفِلٌ یعنی وہ بخیل ہے۔ القُفْلُ ج اَقْفَالٌ و اَقْفُلٌ و قُفُولٌ: تالا۔ القُفْلَةُ: برتی ہوئی چیز کو یاد کر لینے والا القَفَّالُ: اسم مبالغہ۔ القَفِیلُ: تنگ گھاٹی۔ رَجُلٌ مُقْفَلُ الیَدَیْنِ و مُتَقَفِّلُھُمَا و مُقْتَفِلُھُمَا: بخیل کنجوس آدمی جس کے ہاتھوں سے کسی کو کچھ خیر پہنچے ہی نہیں۔

۷۔ [illegible] marfat.com

(ع ا) ہاتھ میں ایک رگ جس کی فصد لی جاتی ہے۔

۸۔ اَقْفَلَ المالَ: ایک ہی مرتبہ میں سب مال دینا۔ القَفْلَةُ: ایک ہی مرتبہ میں دینا کہا جاتا ہے۔ اَعْطَاكَ الفًا قَفْلَةً: اس نے تمہیں ایک ہزار ایک ہی مرتبہ میں دے دیا۔

۹۔ القُفْلُوطُ ـ الکراث الاندلسی دیکھیں۔

○ قَفَلَ ـِ قُفُولًا: واپس آنا، گھر آنا، لوٹنا۔ ـِ قَفْلًا ہ: کو بند کرنا، کو بلی سے بند کرنا، کو تالا لگانا، قفل لگانا، مقفل کرنا، چٹخنی لگانا، کو جمع کرنا، کا انبار لگانا، کا ڈھیر لگانا، کو سینت سینت کر رکھنا، کا ذخیرہ کرنا۔ قَفَّلَ و اَقْفَلَ ہ: کو تالا لگانا قفل لگانا، بند کرنا، (بتی وغیرہ) بند کرنا، کی بہم رسانی منقطع کرنا، (راستہ) روکنا، کو چٹخنی لگانا، تالا لگانا، قفل لگانا، مقفل کرنا، بلی سے بند کرنا۔ قُفْل جمع اَقْفَال و قُفُول: تالا، قفل، بلی، چٹخنی، قَفَّال: قفل ساز، تالوں والا، قَافِل جمع قافلۃ و قُفَّال: گھر آنے والا، لوٹنے والا، وطن واپس آنے والا، قَافِلۃ جمع قَوافِل: کاروان، قافلہ، سپاہیوں کی قطار، کانوائے، بدرقہ۔ قافلۃ (تجاریۃ) بحریۃ او قافلۃ السُفُن: بحری سامان تجارت، اور مسافر جو بدرقہ کی حفاظت میں پہنچائے جائیں۔ بحری (تجارتی) قافلہ۔

قفن ۱۔ قَفَنَ ـُ قَفْنًا ہُ: کو گدی پر مارنا۔ لاٹھی یا کوڑے سے مارنا۔ ــ الشاۃ: بکری کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا صفت مفعولی قَفِیْنَةٌ۔ ـِ قُفُونًا: مرنا۔ قَفَنَ رأسَہُ: کا سر کاٹ دینا۔ اَقْفَنَ و اِقْتَفَنَ الشاۃَ: کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا۔ القَفْنُ (مص): موت جنگ۔ القَفَنُ والقَفَنَّ: گدی۔ شَاۃٌ قَفِیْنٌ: ذبح کردہ بکری۔

۲۔ قَفَنَ ـُ قَفْنًا الکلبُ: کتے کا منہ ڈالنا۔

۳۔ القِفَنُّ: سخت بد زبان مرد۔ القَفَّانُ: امین، تولنے کا ایک پیمانہ۔ ــ قَفَّانُ کُلِّ شیئٍ: کے متعلق مکمل چھان پھٹک۔

قفو ۱۔ قَفَا یَقْفُو قَفْوًا و قُفُوًّا الرجُلَ: کی گدی پر مارنا۔ ــ اثرہ: کے نقش قدم کی پیروی کرنا۔ ــ اللہُ اثرہُ: کو مٹانا، محو کرنا۔ قَفَّی تَقْفِیَةً فلانا زیدًا و بزیدٍ: کو زید کے پیچھے بھیجنا۔ کہا جاتا ہے۔ قَفَّیْتُ عَلٰی اثرہ بِفُلَان: میں نے فلاں کو اس کے نقش قدم پر چلایا۔ ــ علیہ: کو لیجانا۔ تَقَفّی الرجُلَ: کا پیچھا کرنا۔ الاکمۃ: ٹیلے پر چڑھنا۔ ــ واِسْتَقْفی فلانًا بالعصا: کے پیچھے سے آ کر اس کے گدی پر لاٹھی مارنا۔ اِقْتَفی ہُ: کی پیروی کرنا۔ القَافِیَةُ ج قَوَافٍ: گلے کا پچھلا حصہ، شعر کا آخری کلمہ یا آخری حرف ساکن ماقبل

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

متحرک،مثلاً اگر آپ کہیں کہ مَا اَطْوَلَ اللّیْلَ عَلٰی مَنْ لم یَنَمْ: تو اس میں لَمْ یَنَمْ قافیہ ہوگا۔ — من کل شیئ: ہر چیز کا آخری کہاجاتا ہے۔ اَتَیْتُہٗ عَلٰی قَافِیَۃِ الشَّیْئِ: میں اس کے پاس فلاں چیز کے پیچھے آیا۔

القفا و القفاءُ ج اَقْفٍ و اَقْفِیَۃٌ و اَقْفَاءٌ و قُفِیٌّ و قِفِیٌّ و قُفُوْنَ: گردن کا پچھلا حصہ،گدی (مذکر ہے کبھی مونث بھی استعمال ہوجاتا ہے) کہاجاتا ہے۔ لَااٰفْعَلُہٗ قَفَاالدَّھْرِ: میں اس کو زمانہ بھر نہیں کروں گا۔ القُفْیَۃُ: شکاری کا گڑھا جس میں وہ شکار کی گھات میں چھپتا ہے کہاجاتا ہے۔ ھُوَ قِفِیَّتُھُمْ و قَفِیَّتُھُمْ: وہ ان کا قائم مقام ہے۔ یہ قَفَوْتُ اَثْرَہٗ: (تو نے اس کا پیچھا کیا) سے ماخوذ ہے،کہاجاتا ہے۔ لَااَفْعَلُہٗ قَفِیَّۃَ الدَّھْرِ: یعنی میں اس کو زمانہ بھر نہیں کروں گا۔ شَاۃٌ قَفِیَّۃٌ: سر کے پیچھے کی طرف سے ذبح کی ہوئی بکری۔ جھٹکا کی ہوئی بکری۔ التَّقْفِیَۃُ (مص) عند الشعراء: اشعار میں آخری حرف کا موافق ہونا۔ الکلام المُقَفّٰی: وہ کلام جس میں قافیہ اور سجع ہو۔ المُقَفِّیُّ من الغنم: گردن کی طرف سے ذبح کی ہوئی بکری۔

۲۔ قَفَا ـُ قَفْوًا و قُفُوًّا الرجُلَ: پر فجور کی صریحاً جھوٹی تہمت لگانا۔ تَقَافَی الرجُلَ: پر جھوٹی تہمت لگانا۔ — القوم: ایک دوسرے پر تہمت لگانا۔ القِفْوَۃُ: تہمت، بری بات کی طرف نسبت کرنا،گناہ۔ القِفْیَۃُ: عیب۔ القَفِیُّ: متہم بھائی۔

۳۔ قَفَا ـُ قَفْوًا و قُفُوًّا الرجُلَ بامر: کو سے متعین کرنا،مخصوص کرنا۔ اَقْفَی الرجل بامر: کو سے متعین کرنا،مخصوص کرنا۔ — کذا علیٰ کذا: کو پر فضیلت دینا۔کو پر ترجیح دینا تَقَفَّی الشَّیْئَ: کو چننا، — بفلان: کے اکرام کرنے میں مبالغہ کرنا اِقْتَفٰی الرجُلَ بامر: کو سے متعین کرنا،مخصوص کرنا۔ — الشَّیْئَ: کو اختیار کرنا۔ بفلان: کسی کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کرنا۔ القَفَاوَۃُ: مہربانی،نوازش،مہمان کا اکرام،کھانا جس سے مہمان کی تواضع کی جائے، موروثی عزت،کہاجاتا ہے: بِئْسَ القَفْوَۃُ قَفْوَتُكَ: یہ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جس کا انتخاب اچھا نہ ہو،اور کہاجاتا ہے ھُوَ صَفْوَتِیْ و قَفْوَتِیْ: وہ میرا برگزیدہ ہے۔ القَفِیُّ: نہایت مہربان،معزز مہمان،وہ کھانا جس سے مہمان کا اکرام کیا جائے،بہترین بھائی الـقَـفِیَّۃُ: فضیلت جو تمہیں غیر پر حاصل ہو،کھانا جو مہمان کے سامنے رکھا جائے۔ رَجُلٌ مُقَفًّی و مُقَفِّی بہٖ: چناہوا مرد،عزت کیا ہوا مرد۔

۴۔ قَفّٰی تَقْفِیَۃً: آنا۔

۵۔ القَفْوَۃُ: غبار جو بارش کی ابتدا میں اٹھتا ہے۔ القَفِیَّۃُ: گوشہ۔

قفی: قَفِی ـَ قَفًا الرجُلَ: کی گدی پر مارنا،کو بے حیائی سے متہم کرنا۔ القِفْیَۃُ: عیب۔

قـقل: القاقُلّۃُ او الھال (ن) الانجی: ایک پھل کا نام۔ القاقُلّی: ایک قسم کی نمکین گھاس جو اشنان کے مشابہ ہوتی ہے۔ Saltwort

قـقـم: القاقُمُ و القاقُوْمُ (ح): ایک جانور جو نیولے کی شکل کا اور اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے اس سے بو آتی ہے اس کی کھال سے عمدہ اور بیش قیمت پوستین بنائی جاتی ہے (یہ غیر عربی لفظ ہے)۔

قفّی: قافیہ بندی کرنا،ہم قافیہ ہونا۔ — ہ ہ / ب: کو کسی کے پیچھے بھیجنا۔ اِقْتَفٰی اَثَرَہٗ: کے نقش قدم کی پیروی کرنا،کا تعاقب کرنا،کی مثال پر عمل کرنا،کے نقش قدم پر چلنا۔ قَفًا (مذکر و مونث) جمع اَقْفِیَۃ و اَقْفٍ و اَقْفَاء و قُفِی و قِفِی: گدی،پشت سر،پشت، دوسری جانب،(کپڑے کی) الٹی طرف۔ اِقْتِفَاء: (کسی کے) نقش قدم پر لنا،کے نقش قدم کی پیروی۔ قَافِیَۃ: جمع قَوَافٍ: قافیہ،ذومعونیت،گدی۔

قـلّ: قَلَّ ـِ قِلًّا و قُلًّا و قِلَّۃً: کم ہونا اور کبھی قَلَّ کے ساتھ مَا کافہ کا الحاق ہوتا ہے جیسے قَلَّمَا جِئْتَنِیْ: اس صورت میں فعل نہیں رہتا اور فاعل کا تقاضا نہیں ہوتا اور قلما دومعنی کے لئے آتا ہے کبھی محض نفی کے لئے اور کبھی تھوڑی سی چیز ثابت کرنے کے لئے مستعمل ہے۔ — الرجُلُ: کم مال والا ہونا۔ الجِسْمُ: بدن کا دبلا اور چھوٹا سا ہونا،کہاجاتا ہے ھُوَ یَقِلُّ عَنْ کذا: یعنی وہ اس سے چھوٹا ہے۔ قَلَّلَ الشَّیْئَ: کو کم کرنا۔ — الشَّیْئَ فی عین فلان: کو کچھ کم تر دکھلانا۔ قَالَ لَہٗ العطاءَ: کو تھوڑا دینا۔ اَقَلَّ الشَّیْئَ: کو کم کرنا۔ — الرجُلُ: کم لانا،کم مال والا ہونا محتاج ہونا۔ تَقَلَّلَ الشَّیْئَ: کو کم سمجھنا۔ تَقَالَّ الشَّیْئَ: کو کم گننا۔ اِسْتَقَلَّ الشَّیْئَ: کو گننا اور کم سمجھنا۔ القِلُّ: چھوٹی دیوار۔ و القُلُّ: کم — من الشیئ: کم تر چیز، کہاجاتا ہے۔ رَجُلٌ قُلٌّ: اکیلا آدمی۔ ھُوَ قُلُّ ابْنُ قُلٍّ: وہ اور اس کا باپ غیر معروف آدمی ہے اور قَلَّ رَجُلٍ اَوْ اَقَلُّ رَجُلٍ یَقُوْلُ ذَالِكَ اِلَّا زَیْدٌ: یعنی سوائے زید کے اس بات کو کوئی نہیں کہتا۔ القِلَّۃُ ج قِلَلٌ: کمی۔ القُلِّی: پست قدلڑکی۔ القَلِیْلُ ج قَلِیْلُوْنَ و اِقلَّاءُ و قُلُلٌ و قُلُّوْنَ مونث قَلِیْلَۃٌ ج قَلِیْلَاتٌ و قَلَائِلُ: کم،لاغر،کہاجاتا ہے رَجُلٌ قَلِیْلُ الخَیْرِ: کم خیر مرد اور قَلِیْلٌ من الرجال یقول ذالك: یعنی اس کو کوئی نہیں کہتا۔ اور مَا اَخَذْتُ مِنْہُ قَلِیْلَۃً وَلَا کَثِیْرَۃً: میں نے اس سے کچھ نہیں لیا، تائے تانیث صرف نفی کی صورت میں داخل ہوتی ہے۔ القُلُلُ من الناس: متفرق لوگ۔ القُلَالُ و القُلَالُ ج قُلُلٌ: کم چیز۔ و الاَقَلُّ: زیادہ کم۔ — و المُقِلُّ: فقیر جس کے پاس کچھ ہو۔ قَوْمٌ اَقِلَّۃٌ: گھٹیا قسم کے لوگ۔

۲۔ قَلَّ ـِ قِلًّا و قُلًّا و قِلَّۃَ الشَّیْئُ: بلند ہونا۔ قَلَّ قَلًّا الشَّیْئَ: کو اٹھانا۔ — ہٗ عن الارض: کو سے بلند کرنا ،اٹھانا۔ اَقَلَّ الشَّیْئَ: کو بلند کرنا۔ لیجانا۔ تہ الرعدۃُ: کو کپکپی لگنا۔ تَقَالَّ ت الشمسُ: آفتاب کا بلند ہونا ۔ اِسْتَقَلَّ الشَّیْئَ: کو اٹھانا اور بلند کرنا۔ — الطائرُ فی طیرانہ: پرندہ کا اڑان میں بلند ہونا۔ — القومُ: کوچ کرنا۔ — السحابُ: بادل کا بلند ہونا۔ — فلانٌ غضبًا: ناراضگی کی وجہ سے اٹھ جانا۔ — تہ الرعدۃُ: کو کپکپانا — بالامر: کی طاقت رکھنا۔ — برأیہ: رائے میں متفرد ہونا — بکذا: میں اکیلا ہونا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ القِلُّ: کپکی۔ القُلَّۃُ ج قُلَلٌ و قِلَالٌ: سر یا پہاڑ یا ہر چیز کا بالائی حصہ،بڑا مٹکا،چھوٹا کوزہ۔ قُلَّۃُ السَّیْفِ: تلوار کے قبضہ کی چاندی یا لوہے سے زیبائش۔ القِلَالُ: زمین سے انگور کی شاخوں کو اٹھانے والی تھونی۔ القُلَّۃُ: مرض سے صحت یابی یا حصول دولت۔ القِلَّۃُ ج قِلَلٌ: مرض سے صحت یا حصول دولت،کپکی،کہاجاتا ہے۔ رَجُلٌ طَوِیْلُ القِلَّۃِ: یعنی لمبے قد کا مرد۔ قِلَالَۃُ الجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ الاِسْتِقْلَالُ (مص): ملک کی آزادی وخود مختاری۔ المُسْتَقِلُّ (فا): کہاجاتا ہے ھُوَ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِہٖ: وہ خود مختار ہے اور بِلَادٌ مُسْتَقِلَّۃٌ: اپنے معاملات میں خود مختار ملک۔ المُقَلَّلُ (مفع) من السیوف: تلوار جس کے قبضہ پر چاندی یا لوہا لگا ہوا ہو۔

۳۔ القُلَّۃُ ج قُلَلٌ و قِلَالٌ: لوگوں کی جماعت۔ القِلِّیَّۃُ: نصاری کے گرجا کے مشابہ عمارت کہاجاتا ہے۔ رَحَلُوْا بِقَلِیْلَتِھِمْ: وہ سب کوچ کر گئے اور اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ اَکَلَ الضَّبَّ بِقَلِیْلَتِہٖ: یعنی وہ گوہ کو کھال اور ہڈی سمیت کھا گیا۔ اور اَخَذَہٗ بِقَلِیْلَتِہٖ وَبِقَلِیْلَتِہٖ و بِاَقْلِیْلَاہُ و بِقِلِّیْلَاہُ: اس نے سب لے لیا۔

۴۔ قَلْقَلَ قَلْقَلَۃً: آواز کرنا۔ قَلْقَلَ قَلْقَلَۃً و قِلْقَالًا و قَلْقَالًا الحزنُ دَمْعَۃً: غم کا اس کے آنسو بہانا۔ — الشَّیْئَ: کو حرکت دینا۔ — فی الارض: زمین میں چلنا۔ تَقَلْقَلَ: متحرک ہونا،ہلکا ہونا اور تیز چلنا۔ — فی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

البلاد: آنا جانا۔ القَلْقَالُ: مسلسل سفر پر رہنے والا، ہمیشہ سفر پر رہنے والا۔ القُلْقُلُ: سفر میں ہلکا پھلکا۔ ـ والقَلاقِل: سریع الحرکت مددگار۔ القِلْقِل و القُلْقَانُ (ن): انار کے مشابہ ایک درخت جسے مرچ کے برابر گول نرم اور سیاہ رنگ کے دانے لگتے ہیں ـ حُرُوْفُ القَلْقَلَةِ: یہ پانچ حروف ہیں ب، ج، د، ط، ق۔

○ اِلَّا مَاقَلَّ ونَدَرَ: صرف چند استثناءات کے ساتھ۔ اِسْتَقَلَّ بِحِمْلٍ: کوئی بوجھ ذمے لینا، استقل بِصَنْعِهِ: یہ اس نے اکیلے ہی بنایا ہے، اسے صرف اسی نے بنایا ہے۔ اِسْتَقَلَّ بِمُهِمَّةٍ (بِوَاجِبٍ): کوئی کام یا فرض اپنے ذمے لینا۔ قَلَّما: کبھی کبھار، شاذ و نادر، شاذ ہی، بمشکل۔ قِلَّ کپکپی، لرزہ، لہر (خوشی یا خوف کی) قَلَة بحالی صحت، صحت یابی، آسودہ حالی کی بحالی۔ قُلَّة بلندترین جگہ، چوٹی، نوک، سرا، پھننگ، (توپ کا) گولا جمع قُلَل: جگ، صراحی، جھجری۔ (قِلة الاحساس: بے حسی، کند ذہنی، قِلَّة الحیاء: بے شرمی، بے حیائی۔ قِلَّة الصبر: بے صبری، بے تابی۔ قلة الوجود: کمی، قلت، کمیابی، اندرت۔ بِقَلِيَّتِهِ: مکمل طور پر، پوری طرح، سارا، تمام کا تمام، تمام تر۔ رَحَلوا بقليتهم: وہ سب اکٹھے روانہ ہوئے یا مع سامان کوچ کر گئے۔ قِليلاً: ایک حد تک، کسی حد تک، کچھ، کبھی کبھار، شاذ و نادر۔ قليلاًما: کبھی کبھار، شاذ و و نادر۔ قليلاً قليلا: تھوڑی دیر میں، کچھ دیر بعد، بتدریج۔ الکُلّ الا قليلا: تقریبا ہر چیز، تقریبا سب بعدَ قليل: تھوڑی دیر بعد عن قليلٍ یا عَمَّا قليل: جلد، تھوڑی دیر بعد، ليس منه لا بِقليلٍ ولا بِكثيرٍ: سے مطلقا کوئی تعلق نہ ہونا۔ قليل الادب: غیر مہذب ناشائستہ، گنواروں کا سا، گستاخ۔ قليل الحياء: بے شرم، بے حیاء۔ قليل الارتفاع: نیچا، قليل الصبر: بے صبر، بیتاب، شاذ قليل الوجود: نہ ہونے کے برابر، کمیاب۔ اَقَلّ: (کم تر، (سے) کم (سے) چھوٹا۔ شاذ تر۔ الاَقَلّ: کم از کم۔ على الاقل يا بالاقل: کم از کم۔ على اقل تقدير بمعنی على الاقل۔ لا اَقَلّ من ان: آدمی کم از کم جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ، (میں آپ وغیرہ) کم از کم۔ اقل من القليل: بالکل غیر اہم، قریب قریب نا قابل ذکر، یونہی سا۔ واقل من هذا و ذلك ان: سے قطع نظر۔ مُقِلّ: غریب، مفلس، قلاش۔ مُسْتَقِل: آزاد، خود مختار، جدا، الگ۔ خاص استقلال: آزادی۔ استقلالی تحریک آزادی کا حامی، آزادی کا یا آزادی سے متعلق۔

قلب: ا۔ قَلَبَ ـِ قَلْبًا الشيئَ: کو الٹ پلٹ کر دینا، اوپر کا نیچے کر دینا۔ اندر کا باہر کر دینا۔ ـــ القوم: کو پھیر دینا، کہا جاتا ہے قَلَبَ المُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ: معلم نے بچوں کو ان کے گھر لوٹا دیا۔ ـ ت البسرةُ: کچی کھجور کا سرخ ہونا۔ ـــ المجنونُ عينَهُ: غضبناک ہونا۔ ـــ الارضَ للزراعة: ہل کے ساتھ زمین کی اندرونی تہہ کو الٹ پلٹ کرنا کہا جاتا ہے۔ قلب الامر ظهرًا لبطنٍ: اس نے معاملہ کی آزمائش کی۔ قَلَبَ ـُ قَلْبًا هُ: کے دل پر مارنا۔ ـ النخلةَ: کا گودا نکالنا۔ ـ اللّٰهُ فلانًا اليه: اللہ کا کسی کو موت دینا۔ قَلِبَ ـَ قَلَبًا: الٹے ہونٹوں والا ہونا صفت اَقْلَبُ ـ ت الشفةُ: ہونٹ کا الٹا ہونا صفت۔ قَلْبَاءُ۔ قُلِبَ البَعِيْرُ: اونٹ کا دل کی بیماری والا ہونا۔ قَلَّبَ هُ بمعنی قَلَبَهُ اور تشدید مبالغہ یا تکثیر کے لئے ہے کہا جاتا ہے۔ اَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيهِ: وہ نادم ہونے لگا اور کہا جاتا ہے۔ قَلَّبَ الاُمُوْرَ: اس نے امور کے انجام پر نظر ڈالی۔ اَقْلَبَ الشيئَ: کو الٹ دینا۔ ـ الخبزُ: روٹی الٹنے کے قابل ہونا۔ ـ العنبُ: انگور کے اوپر کا حصہ خشک ہونا۔ ـــ القوم: دل کی بیماری میں مبتلا اونٹوں کا مالک ہونا۔ ـ ہ اللّٰه اليه: اللہ کا کسی کو مارنا۔ تقلبَ: پلٹنا۔ ـ على فراشه: کروٹیں لینا۔ ـ فی الامور: میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا، کہا جاتا ہے۔ انا اَتَقَلَّبُ فِيْ نَعْمَائِهِ: میں اس کی نعمتوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہوں۔ اِنْقَلَبَ: الٹایا جانا، اوندھا ہونا، واپس ہونا۔ القَالِبُ (فا) ج قَوَالِبُ: جوتا بنانے کا فرمہ۔ سرخ رنگ کی کچی کھجور، کہا جاتا ہے شَاةٌ قَالِبُ لَوْنٍ: ماں کے مخالف رنگ کی بکری۔ القَالَبُ ج قَوَالِبُ: سانچہ۔ القُلَابُ (طب): دل کی بیماری۔ القَلْبُ (مص) ج قُلُوْبٌ (ع ا): دل، عقل۔ ـ

○ قَلْبُ الجَيْشِ: فوج کا درمیانی حصہ۔ ـ قلبَ کل شيئٍ: گودا، خالص کہا جاتا ہے جِئْتُكَ بِهٰذَا الاَمْرِ قَلْبًا: میں تمہارے پاس محض اسی کام کے لئے آیا اور کہا جاتا ہے۔ رَجُل قَلْبٌ: یعنی خالص النسب۔ اور اس میں مذکر مونث واحد جمع سب برابر ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے۔ اِمْرَاَةٌ قَلْبَةٌ افعال القلوب ظن اور اس کے امثال قَلْبٌ ج اَقْلَابٌ وقُلُوْبٌ و قِلَبَةٌ من الشجر: درخت کے اندر کا نرم گودا۔ ـ قَلْبُ النَّخْلَةِ: کھجور کا گودا۔ القُلْبُ والقِلْبُ ج اَقْلَابٌ وقُلُوْبٌ وقِلَبَةٌ من الشجر: درخت کے اندر کا نرم گودا۔ القُلْبَةُ: سرخی ـــ (ط): ابالی ہوئی گندم (عامیہ)۔ القَلَبَةُ: وہ بیماری جس سے بیمار بستر پر پڑ جائے۔ القُلَّبُ: الٹنے والا، بہت پلٹنے والا، کہا جاتا ہے رَجُلٌ حُوَّلٌ قُلَّبٌ یا حُوَّلِيٌّ قُلَّبِيٌّ: یعنی حیلہ گر، معاملہ کے الٹ پلٹ کا ماہر۔ القَلُوْبُ: بہت الٹنے پلٹنے والا۔ القَلِيْبُ ج قُلُبٌ و قُلُبٌ واَقْلِبَةٌ: کنواں، پرانا کنواں (مذکر اور کبھی مونث استعمال کیا جاتا ہے)۔ المِقْلَبُ: ہل۔ المَقْلُوْبَةُ (مفع): کان۔ المُنْقَلَبُ: لوٹنے کی جگہ۔ انقلاب کا اسم ظرف، کہا جاتا ہے كُلُّ امْرِئٍ يَصِيْرُ اِلٰى مُنْقَلَبِهِ: ہر شخص اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔

۲۔ قَلْبُ العَقْرَبِ: منازل قمر میں سے ایک منزل کا نام۔ القُلْبُ: کنگن۔ ـ (ح): سفید سانپ۔ ـ(ن): کا سرالجرد یکھیں۔ القَلُوْبُ والقِلَابُ (ح): بھیڑیا۔ القَلُّوْبُ والقِلَّوْبُ والقِلِّيْبُ (ح): بھیڑیا۔ ـ (ح): شیر۔

قلت: ا۔ قَلِتَ ـَ قَلَتًا: ہلاک ہونا۔ اَقْلَتَ هُ: کو ہلاک کرنا ـــ هُ فَقَلِتَ: اس نے اسے فاسد کیا پس وہ فاسد ہو گیا۔ ـــ ت المرأةُ و کل انثی: بے اولاد ہونا اور قَلَت اسم ہے۔ المِقْلَاتُ ج مَقَالِيْتُ: وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہے، وہ عورت جس کے ہاں صرف ایک بچہ ہو پھر وہ حاملہ نہ ہو۔ المَقْلَتَة: ہلاکت، خوف ناک جگہ۔

۲۔ القَلْتُ ج قِلَاتٌ: چٹان کا گڑھا، آنکھ وغیرہ کا گڑھا، عضو کے ہر گڑھے کو قَلْتٌ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ طَعَنَهُ فِيْ قَلْتِ خَاصِرَتِهِ: اس نے اس کے کوکھ کے گڑھے میں نیزہ مارا، اور کہا جاتا ہے۔ طَعَنَهُ فِيْ قَلْتَی تَرْقُوَتَيْهِ: اس نے اس کی دو ہنسلیوں کے بیچ کے گڑھے میں نیزہ مارا۔ رَجُل قِلْتٌ وقَلِتٌ: کم گوشت والا۔ القَلْتَة: دونوں مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔ ـ شَاةٌ قَلْتَة: بکری جس کا دودھ میٹھا نہ ہو۔

○ قَلَبَهُ رأساً: کو الٹانا۔ قلب له ظَهرَ المِجَنّ: کو ڈھال کی پشت دکھانا، سے سرد مہری یا رکھائی سے پیش آنا، بے رخی سے کام لینا، بے اعتنائی برتنا، کا دشمن بن جانا۔ قَلَّبَهُ بين يَدَيهِ: کو اپنے ہاتھوں میں چاروں طرف گھمانا، کو مضطرب کرنا۔ قَلَبَهُ بعقلهِ: پر غور و فکر کرنا۔ قَلَّبَهُ ظَهرًا لِبَطْنٍ: کو الٹا کرنا، الٹانا، الٹنا پلٹنا۔ قَلَّبَ كَفَّيهِ: پچھتانا۔ متاسف ہونا، سراسیمہ ہونا۔ قَلَّبَ فيه البصرَ: کی جانچ پڑتال کرنا۔ قَلَّبَ فيه النظرَ: کی جانچ پڑتال کرنا۔ تَقَلَّبَ فی وَظَائِفَ عَدِيْدَةٍ: وہ کئی مناصب پر فائز رہا۔ تَقَلَّبَ فی النِّعْمَةِ (يا النعيم) اور تقلبَ فی اعطاف العيش الناعم: آسودہ زندگی اِنْقَلَبَ ظهرًا لِبَطْنٍ: الٹنا، الٹ جانا، مکمل ہو، پر تباہ و برباد

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونا۔ اِنْقَلَبَ اِلی الھجوم حملہ کرنا، حملہ میں پہل کرنا۔ قَلْب: الٹا ہونا یا کرنا، اوندھا کرنا یا ہونا، انقلاب، تبدیلی، تغیر، قلب ماہیت، ادل بدل (الفاظ کا)، قلب خروف، تقلیب (گرامر) اوندھی کھوپڑی کا ہونا، (حکومت کا) خاتمہ کرنا۔ قَلْب جمع قُلُوب: دل، وسط، مرکز، گودا، مغز، خلاصہ، مخلص، ست، جوہر، روح، لب لباب، بہترین یا منتخب ترین حصہ، ذہن، روح، قلب الأسد: ایک ستارہ کا نام، اسد نامی ستاروں کے جھرمٹ کا سب سے روشن/اہم ستارہ۔ قلب الھجوم: سنٹر فارورڈ۔ سویداء القلب: دل کا انتہائی اندر کا حصہ، دل کا بنیادی حصہ۔ ضعیف القلب: بزدل، ڈرپوک، دل کا ہلکا، قاسی القلب: سنگدل، قساوۃ القلب سنگدلی، انقباض القلب: دل شکستگی، شکستہ دلی۔ عن ظھرِ القلب: زبانی (جیسے زبانی حفظ کرنا یا زبانی یاد کرنا میں) من صمیم القلب: انتہائی خلوص سے، دل کی گہرائی سے۔ من کلِّ قلبہ: پورے دل سے۔ قلبًا و قالبًا: جان و دل سے۔ قُلُوباتُ (السُکّر): ٹافیاں، چوسنے والی میٹھی ٹکیاں (خواہ دوا کی ہوں)۔ قَلْبِیًّا: تپاک سے، جوش و خروش سے، خلوص سے۔ عربۃ قَلّابَۃ: چھکڑا، قَلّاب خلّاط: گھومنے والا آمیزہ کار (Rotary Mixer) مُقْلَب: کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، سازش، ساز باز، اندر ہی اندر گٹھ جوڑ، اپریل فول کا مذاق۔ جمع مقالب مِقْلَب جمع مقالِب: کھرپا عند تقلیب النظر: زیادہ قریبی معائنہ یا جائزہ پر۔ تَقَلُّب جَوِّی: موسم کی تبدیلی۔ سریع التقلب: بہت متلون، ناپائیدار، ہر آن بدلنے والا۔ دائرۃ الانقلاب: خط سرطان یا خط جدی۔ مَقْلُوب: ایسا عدد جس سے مقررہ عدد کو ضرب دی جائے تو حاصل ایک ہو۔ (ریاضی)۔ مُتَقَلِّب و متقلب الاطوار (یا الاحوال) پس و پیش کرنے والا، متذبذب، متلون۔ مُنْقَلَبٌ شَتَوِیّ: خط جدی۔ مُنْقَلَبٌ صَیْفِیٌّ: خط سرطان۔ قَلْبَق: لمبی، عموماً سطوانی، پشم کی ٹوپی۔

قلح: ۱۔ قَلِحَ ـَ قَلَحًا: زرد دانتوں والا ہونا۔ ــ ت اسنانُہٗ: کے دانتوں کا زرد ہونا صفت مذکر قَلِحٌ و اَقْلَحُ مونث قَلِحَۃٌ و قَلْحَاءُ ج قُلْحٌ۔ قَلَّحَ ہٗ: دانتوں کو زردی سے صاف کرنا۔ تَقَلَّحَ: میلے کپڑے والا ہونا۔ القَلْحُ (ح): بوڑھا گدھا۔ القِلْحُ میلا کپڑا۔ القَلَحُ و القُلاحُ: زردی جو دانتوں پر آجاتی ہے، اونٹ کے دانتوں کے درمیان کا سبزہ۔ الاُقْلُحُ (ح): گبریلا۔ رَجُلٌ اَقْلَحُ تجربہ کیا ہوا مرد۔

۲۔ تَقَلَّحَ البلادَ قحط کے زمانہ میں شہروں میں کمائی کرنا۔

۳۔ اِقْلَحَمَّ الرجُلُ: بہت بوڑھا ہونا۔ شَیْخٌ قِلْحَامَۃٌ: بہت بوڑھا۔ القِلْحَمُّ: بوڑھا، متکبر

۴۔ القَلْحُونَ (ن) توت کی ناز: شاخ (عامیہ سریانیہ)

☜ قَولَحۃ جمع قَوَالِح: (مکئی وغیرہ کا) بھٹا۔

قلخ: قَلَخَ ـَ قَلْخًا و قَلِیْخًا الشجرۃَ: درخت اکھاڑنا۔ قَلَخَ قَلْخًا و قَلِیْخًا و قُلَاخًا البعیرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔ قَلَّخَ ہٗ بالسوط: کو کوڑا مارنا۔ ــ النبتُ: نباتات کا سخت ہونا۔ القَلْخُ (ن) کھوکھلا، نرکل یا بانس۔ (ح): بوڑھا گدھا۔ ــ و القُلاخُ: بڑے سروالا۔

قلد: ۱۔ قَلَدَ ـِ قَلْدًا الماءَ فی الحوض او الشرابَ فی البطن: پانی کو حوض میں یا مشروب کو پیٹ میں جمع کرنا۔ ــ الزرعَ کھیتی سیراب کرنا۔ ــ ت الحمّی فلانًا: کو بخار ہر روز آنا۔ اَقْلَدَ البحرُ علیھم: کو غرق کر دینا۔ تَقَالَدَ القومُ الماءَ: پانی پر باری باری آنا۔ اِقْتَلَدَ الماءَ: پانی کا چلو لینا۔ اِقْلَوَّدَ النعاسُ فلانًا: پر نیند کا غالب آنا۔ القِلْدُ ج اَقْلَادٌ: پانی کا حصہ، بڑے پیالے کے مشابہ برتن، چوتھیا بخار کا دن، بخار کی باری کا دن، آبپاشی کا دن، آبیاری کا دن، آسمانی بارش، کہا جاتا ہے۔ سَقَتْنَا السَّمَاءُ قِلْدًا فِی کُلِّ اُسْبُوْعٍ: یعنی ہم پر ہر ہفتہ میں بارش ہوئی۔ القَلُوْدُ: بہت پانی والا کنواں۔ المِقْلَدُ: برتن، توبرہ، ناپنے کا پیمانہ۔

۲۔ قَلَدَ ـِ قَلْدًا الحبلَ: رسی بٹنا۔ ــ الحدیدۃَ لوہے کو باریک کرنا اور کسی چیز پر موڑنا۔ ــ الشیئَ: کو موڑنا۔ القَلْدُ (مص) ج اَقْلَادٌ و قُلُوْدٌ: بیچ دیا ہوا اور اینٹھا ہوا کنگن، (کہا جاتا ہے۔ سِوَارٌ قَلْدٌ: گوندھا ہوا کنگن) رسی کی لڑی جو لڑی سے لپٹی ہوئی ہو القِلَادُ و الاَقْلِیْدُ: انگوٹھی یا بالی کے گرد لپیٹنے کے لئے پیتل یا تانبے کا تار۔ القَلِیْدُ و المَقْلُوْدُ: بٹا ہوا۔ المِقْلَدُ: ٹیڑھے سر کی چھڑی۔

۳۔ قَلَدَ ـِ قَلْدًا الرجُلَ السیفَ: کو تلوار کا پرتلہ لگانا، پہنانا قَلَّدَ ہُ السیفَ: تلوار کو قائل کرنا۔ کے گلے میں تلوار کا پرتلہ ڈالنا۔ ــ ہُ القلادۃ: کو ہار پہنانا۔ ــ البعیرَ: اونٹ کی گردن میں کھینچنے کے لئے رسا ڈالنا۔ کہا جاتا ہے۔ قُلِّدَ حَبْلُہٗ: وہ آزاد چھوڑ دیا گیا۔ ــ ہُ العملَ: کو کام سپرد کرنا۔ ــ ہُ الدَّیْنَ: کو قرض سونپ دینا۔ ــ فلانًا القضاء فی بلد کذا: کو کا قاضی بنانا، کہا جاتا ہے قَلَّدَہٗ فِیْ کَذَا اس نے اس کی فلاں بات میں بغیر کسی غور و فکر کے پیروی کی۔ تَقَلَّدَ السیفَ: گلے میں تلوار کا پرتلہ ڈالنا۔ ــ الامرَ کا ذمہ دار ہونا، کو برداشت کرنا۔ ــ ت المرأۃُ القلادۃَ: عورت کا ہار پہننا۔ القِلْدُ: کہا جاتا ہے اَعْطَیْتُہٗ قِلْدَ اَمرِیْ: میں نے اپنے معاملہ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ القَلَادَۃ (ن): ایک پودے کا نام۔ القِلَادَۃُ ج قَلَائِدُ و قِلَادٌ: ہار، مالا۔ ــ (فلک): چھ ستارے جن کو قوس بھی کہتے ہیں۔ قَلَائِدُ الشِعْرِ: اشعار جو نفاست کی بناء پر یاد کئے جائیں اور محفوظ رکھے جائیں۔ القِلِّیْدُ: خزانہ۔ الاِقْلِیْدُ ج اَقَالِیْدُ: کنجی، چابی (یونانیہ)۔ التَقْلِیْدُ (مص) ج تَقَالِیْدُ و تَقْلِیْدَاتٌ: فرمان شاہی جو پیروی کے لئے حاکم کے نام جاری ہو، عقائد، عادات، علوم اور اعمال (جو آباواجداد، اساتذہ اور معاشرے سے منتقل ہوئے ہوں) التَقَالِیْدُ عند النصارٰی: عیسائیوں کی سینہ بسینہ مذہبی باتیں۔ جو بائبل میں درج نہ ہوں المِقْلَادُ ج مَقَالِیْدُ: خزانہ ــ و المِقْلَدُ ج مَقَالِدُ: کنجی، کہا جاتا ہے۔ ضَاقَتْ مَقَالِدُہٗ او مَقَالِیْدُہٗ: اس کے اوپر اس کے معاملات تنگ ہو گئے۔ اَلقٰی اِلیہ مقالیدَ الامور: اس نے اپنے امور اسے سونپ دیئے۔ المُقَلَّدُ (مفع): سردار قوم، آگے بڑھنے والا گھوڑا، ہار پہننے کی جگہ، کندھوں پر پرتلہ ڈالنے کی جگہ۔ مُقَلَّدَاتُ الشِّعْرِ: اشعار جو نفاست کی بناء پر یاد کئے جائیں اور محفوظ رکھے جائیں۔ القِلْدُ ج اَقْلَادٌ: جماعت۔ القِلْدَۃُ: گھی کا تلچھٹ، کھجور۔ القَلْدَۃُ: دونوں مونچھوں کے درمیان گڑھا۔

قلز: قَلَزَ ـِ قَلْزًا الرجُلُ: پینا، چست ہونا، کودنا، لنگڑانا۔ ــ ہُ الماءَ: کو پانی گھونٹ گھونٹ پلانا۔ تَقَلَّزَ الوعلُ: پہاڑی بکری کا دوڑنا، چست ہونا۔ اِقْتَلَزَ الکاسَ: کو گھونٹ گھونٹ پینا۔ القُلَزُ من الرجال: ہلکا پھلکا کمزور مرد۔ القِلِزُّ مونث قِلِزَّۃٌ و القُلُزُّ مونث قُلُزَّۃٌ: مضبوط مرد۔

۲۔ قَلَزَ ـُ قَلْزًا ہٗ: کو مارنا۔ ــ الارضَ بعصاہ: زمین کو لاٹھی سے کریدنا۔ ــ بسھمہ او بقیئہ: تیر پھینکنا۔ یا الٹی کرنا۔ و قَلَّزَ و اَقْلَزَ الجرادُ: انڈے دینے کے لئے دم کو زمین پر مارنا۔ (ٹڈی کا)

۳۔ القِلِزُّ و القُلُزُّ مونث قِلِزَّۃٌ و قُلُزَّۃٌ: سخت تانبا کہ جس کو لوہا کاٹ نہ سکے۔

۴۔ قَلْزَمَ الشیئَ: کو نگلنا۔ تَقَلْزَمَ الشیئَ: کو نگلنا۔ ــ الرجُلُ: کنجوسی کی وجہ سے مرنا۔ القِلْزِمُ: کمینہ۔ القُلْزُمُ: مصر اور مکہ کے درمیان ایک تاریخی شہر کا نام ہے اور اس کے نام پر بحر قلزم ہے۔ القَلْزَمَۃُ (مص): کمینہ پن، شور۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مقالید الأمور بنیادی مناصب، اقتدار، مقالیدُ الحکم حکومت یا اقتدار کی لگامیں، کنٹرول، تسلَّمَ مقالیدَ الحکم حکومت (کا کام) سنبھالنا، اقتدار پر قبضہ کرنا۔ اُلقی الیہ مقالید الامور کے سپرد انتظام، بندوبست، دیکھ بھال کرنا، کو نگران مقرر کرنا، تقلید جمع تقالید نقل اتارنا، نقل، خیالات و تصورات کی اندھی اور بے چون و چرا قبولیت، (کسی ماخذ کی مجاز حیثیت پر) غیر معترضانہ ایمان، کسی مذہب کے قانونی فیصلہ کو اپنا لینا (جمع تقالید) روایت، ریت، رسم، رواج، دستور۔ تقلیدی روایتی، رواجی، رسمی، تقلیدی مبنی بر غیر معترضانہ ایمان۔ مُقلَّد نقل کیا ہوا، نقل، تقلید کیا ہوا، جعلی، روایت سے بندھا ہوا، مصنوعی، بناوٹی۔ الإقلید جمع الأقالید چابی۔ بحر القلزم بحر قلزم، سرخ سمندر۔

قلس ا۔قلَسَ ـِ قلسًا و قلسانًا الرجلُ کھانے یا پانی کا پیٹ سے کے منہ تک آنا (منہ بھر کر یا کم، جب بہت زیادہ ہو جائے تو الٹی کہلاتا ہے)۔ بہت شراب پینا ـــ ت نفسُہ کا جی متلانا ـــ ت الکأسُ بالشراب پیالہ کا چھلک پڑنا ـــ الاناءُ چھلک پڑنا ـــ البحرُ بالماء الطعنةُ بالدم: سمندر کا کناروں سے باہر آنا، چھرے کے گھاؤ سے خون باہر نکلنا ـــ ت النحلُ العسلَ شہد کی مکھی کا شہد نکالنا ـــ ت السحابةُ الندی تھوڑا برسنا۔ القالسُ وہ شخص کہ بدہضمی کی وجہ سے جس کے منہ تک کھانا پانی باہر آ جائے۔ القَلَسُ بدہضمی کی وجہ سے کھانا پانی جو منہ تک آئے قے۔ قلسُ السحر بادل۔ القَلّاسُ اسم مبالغہ۔ بحرٌ قلّاسٌ زیادہ جھاگ پھینکنے والا سمندر۔ القِلِّیسُ (ح) شہد، شہد کی مکھی۔

۲۔قلَسَ ـِ قلسًا و قلسانًا الرجلُ گانے میں ناچنا، عمدہ گانا۔ قلَّسَ دف بجانا اور گانا ـــ القومُ گا بجا کر اور کھیل کود سے بادشاہوں کا استقبال کرنا۔

۳۔قلَّسَ سجدہ کرنا ـــ لہ سے سینے پر ہاتھ رکھ کر عجز و انکساری ظاہر کرنا۔

۴۔قلَّسَ الرجلَ کو ٹوپی پہنانا۔ تقلَّسَ ٹوپی پہننا۔ القَلّاسُ ٹوپی بنانے والا۔

۵۔القَلسُ ج قُلوسٌ و أقلاسٌ کشتی و جہاز کی موٹی رسی (یونانیہ)۔

۶۔قلْسَى الرجلَ کو ٹوپی پہنانا۔ تقلسی قلسی تقلسیًا ٹوپی پہننا۔

۷۔الانقلیس و الانقلیس (ح) ایک قسم کی نہری اور سمندری مچھلی جو سانپ کے مانند ہوتی ہے، بام مچھلی (یونانیہ)۔

قلَسَ ـِ قلْسًا ڈکار لینا، ڈکار آنا۔ قلَّسَ لـ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ـــ علی کو چھیڑنا، سے مذاق کرنا، کا مذاق اڑانا، منہ چڑھانا ـــ ہ کے سر پر ٹوپی (قلنسوہ) رکھنا۔ قلس جمع قُلوس: بحری جہاز کھینچنے کا رسا، رسہ۔

قلش: القَلاشُ چھوٹا سکڑا ہوا۔ القَلاشةُ کوتاہی، چھوٹا پن۔ القَلّاش و الاقلَش حیلہ گر (فارسیہ)۔

قلشَ (پرندوں کا) پر جھاڑنا، کینچلی بدلنا۔ قالوش جمع قالوشات جوتا پوش، موزہ پوش، طوفانی موسم میں جوتوں اور پاؤں کو محفوظ رکھنے کے لئے جوتوں کے اوپر پہننے کے پتلے ربڑ کے جوتے۔ قلشین جمع قلاشین پٹی (جو بچاؤ کیلئے ٹانگوں یا پنڈلیوں پر لپیٹتے ہیں)۔

قلص: قلَصَ ـِ قلوصًا الرجلُ کودنا ـــ القومُ اکٹھا ہو کر چلنا ـــ الماءُ پانی کا ختم ہونا۔ الغلامُ جوان ہونا ـــ ت النیرُ اوپر تک چڑھنا ـــ ت نفسُہ کا جی متلانا ـــ القومُ عن الدار سے ہلکے پھلکے اور اکٹھے ہو کر چلنے کا وقت آنا ـــ الظلُّ عن کذا سے سایہ کا سمٹ آنا صفت قالص ـــ الثوبُ بعد الغسل دھونے کے بعد کپڑے کا سکڑنا ـــ ت الشفةُ ہونٹ کا اوپر کو سکڑنا۔ قلِصَ ـَ قلَصًا ت نفسُہ کا جی متلانا۔ قلَّصَ ت الناقةُ براکبها اونٹنی کا سوار کو لے کر تیز دوڑنا، دوڑے جانا ـــ القومُ اونٹنیوں پر سوار ہونا ـــ ت الدرعُ زرہ کا چست ہونا ـــ قمیصہ فقلّص ھو کو سینا، کا سمٹنا۔ اقلَصَ ت الناقةُ کا دودھ خشک ہو جانا۔ البعیرُ کے کوہان کا کچھ حصہ ظاہر ہونا۔ ت الناقةُ گرمیوں میں موٹی ہونا۔ تقلَّص اکٹھا ہونا، سکڑنا، قریب ہونا ـــ فی علم الطبیعیات سکڑنا۔ القلصة ج قلَصٌ و قلَصاتٌ پانی جو کنویں میں بکثرت ہو کر ختم ہو جائے، کہا جاتا ہے۔ ماوجدت فی البئر الا قلصةً من الماء کنویں میں میں نے صرف تھوڑا سا پانی پایا۔ القَلّاص اونٹنی کو دو دینے والا ـــ من المیاہ ختم ہونے والا پانی۔ القلوص (ح) جوان لڑکی۔ (ح) جہازی پرندہ کا جوزہ، جاری نہر جس میں گندگی وغیرہ بہہ کر جاتی ہو ـــ من الابل جمع قلائص و قلاص و قُلُص و قُلصان لمبی ٹانگوں والی اونٹنی، جوان یا چلتی ہوئی اونٹنی، وہ اونٹنی جس پر پہلی مرتبہ سواری کی جائے۔ القَلیصُ بہت زیادہ ـــ من المیاہ ختم ہونے والا پانی۔ المِقلاص اونٹنی کو دو دینے والا ـــ من النوق گرمی میں موٹی ہو جانے والی ... لمبی ٹانگوں والا گھوڑا۔

قلَصَ ـِ قُلوصًا سکڑنا (دھلے ہوئے کپڑے کا)، کم ہونا، گھٹنا، دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہونا (سائے کا) پیچھے ہٹنا۔ قلَصَ ظلُّہ اس کے وقار کے زوال کا وقت آ گیا، یہ کم ہو گیا، سمٹ گیا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ گیا۔ قلَّصَ ہ کو سکیڑنا، قریب کرنا (آستین وغیرہ) چڑھانا، اڑسنا، کو بڑھانا، جمع کرنا۔ تقلَّص ظلُّہ بمعنی قلص ظلُّہ۔ اَقلَص زیادہ چھوٹا، زیادہ کم۔

قلط: قلَطَ ـُ قلطًا ہ عند العامة سے میل کچیل دور کرنا (سریانیہ)۔ القُلط عند العامة کوڑا کرکٹ بہا لیجانا۔ القَلَطیُّ و القُلیط مرد خبیث، سرکش ـــ و القُلاط بہت پست قد، آدمی ہو یا بلی یا کتا۔ القَلیط عند العامة گندگی یا میل کچیل کا ڈھیر (سریانیہ)۔ القِلِّیطُ خصیہ میں سوجن۔ القَلیطة روٹی کی ایک قسم (عامیہ سریانیہ)۔ القیلط و القیلط: خصیہ میں سوجن والا۔

قلع: ا۔قلَعَ ـَ قلْعًا الشیءَ کو جڑ سے اکھیڑنا، کو اس کی جگہ سے پھیر دینا ـــ الوالی فلانًا کو معزول کرنا۔ قلِعَ ـَ قلَعًا و قلَعةً الراکبُ سوار کا زین پر جم کر نہ بیٹھنا ـــ المصارعُ کشتی کرنے کے وقت کے قدم ثابت نہ رہنا۔ قُلِعَ قلْعًا الرجلُ حملہ میں ثابت نہ رہنا یا زین پر جم کر نہ بیٹھنا۔ قلَّعَ الشیءَ کو جڑ سے اکھیڑنا۔ قالعا مقالعةً ایک دوسرے کو اکھیڑنا۔ اقلَعَ الامیرُ قلعہ بنانا ـــ الشیءُ روشن ہونا ـــ اصحابُ السفینة روانہ ہونا۔ الملاحُ السفینةَ بادبان اٹھانا ـــ عن کذا سے باز رہنا اور اسے چھوڑنا ـــ ت الحمّی عن فلانٍ سے بخار کا اتر جانا کہا جاتا ہے یا سماء اقلعی یعنی اے آسمان بارش سے رک جا۔

تقلَّعَ جڑ سے اکھڑنا ـــ فی مشیہ آگے کو جھکتے ہوئے چلنا۔ اقتلع جڑ سے اکھڑنا ـــ الشیءَ کو جڑ سے اکھیڑنا، چھین لینا۔ انقلع جڑ سے اکھڑنا۔ القُلَعُ چلنے میں قوی مرد۔ القَلْعُ ج اقلُع و قُلوع بسولی، چرواہے کا تھیلہ۔ قلعُ الحمّی بخار کا اترنے کا دن، کہا جاتا ہے۔ ترکتُہ فی قلْعٍ من حُمّاہ میں نے اس کو بخار کی اتری ہوئی حالت میں چھوڑا۔ القَلِعُ وہ شخص جو گھوڑے پر اچھی طرح نہ بیٹھ سکے، بادبان، بخار اترنے کا دن، کہا جاتا ہے۔ ترکتہ فی قِلعٍ من حُمّاہ میں نے اسے بخار اتری ہوئی حالت میں چھوڑا۔ القَلَعُ کھرنڈ جو کھجلی والے کے جسم پر ہو، پتھر جو چٹان کے نیچے ہو ـــ من الحمّی بخار

maarfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اترنے کا دن، کہا جاتا ہے۔ تَرَكْتُهُ فِي قَلَعٍ مِنْ حُمَّاهُ: میں نے اسے بخار اتری ہوئی حالت میں چھوڑا۔
القَلِعُ: کھرنڈ والا، جو حملہ یا زین پر قائم نہ رہ سکے۔ شَيْخٌ قَلِعٌ: کھڑے ہونے کی حالت میں آگے کو جھکنے والا بڈھا۔ القُلَعَةُ: کھرنڈ والا، کمزور جو کشتی میں جلد مغلوب ہو جائے، ہمیشہ نہ رہنے والا مال، مانگا ہوا مال، جو درخت سے اکھیڑا جائے، کہا جاتا ہے۔ هُوَ عَلَى قُلْعَةٍ: وہ سفر پر ہے اور کہا جاتا ہے۔ مَنْزِلُنَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ و قُلُعَةٍ: یعنی ہم اس مکان کے مالک نہیں۔ و هٰذَا المَنْزِلُ مَنْزِلُ قُلْعَةٍ: یعنی یہ ایسا مکان ہے کہ جب کوئی صاحب عزت آدمی آجاتا ہے تو بیٹھنے والا اٹھا دیا جاتا ہے یا بار بار اٹھنا پڑتا ہے القَلْعَةُ ج قِلَاعٌ و قُلُوعٌ: قلعہ، کھجور کا چھوٹا پودا جو کھجور کی جڑ سے اکھیڑا جائے، چرواہے کا توشہ دان۔ الطائرة (ا ع): بڑا جنگی ہوائی جہاز۔ القِلْعَةُ ج قِلَعٌ: قَلَع کا اسم نوع، لمبا پھاڑا ہوا ٹکڑا۔ القَلَعَةُ ج قِلَاعٌ و قَلَعٌ: چٹان جو پہاڑ سے جدا ہو گئی ہو اور اس پر چڑھنا دشوار ہو۔ ج قَلَعٌ: بڑا ٹیلہ، قلعہ، بادل کا پہاڑ جیسا ٹکڑا۔ القُلَعَةُ: کھرنڈ والا، جگہ جس میں اس کا مالک نہ رہ سکے کہا جاتا ہے۔ مَجَالِسُ قُلْعَةٌ: ایسی نشستیں جن پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے باعزت فرد کے آنے کی وجہ سے بار بار اٹھنا پڑے، کہا جاتا ہے مَنْزِلُنَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ یعنی ہم اس کے مالک نہیں۔ القُلَاعُ: مٹی جو خشک ہو جائے اور اس کے نیچے سانپ کی چھتری ہو، واحد قُلَاعَةٌ: خشک ہونے کے بعد پھٹی ہوئی مٹی، پھنسیاں جو منہ یا زبان پر ہوں قُلَاعُ الأُذُنِ: کان کی جڑ میں شگاف کہ جس سے پیپ وغیرہ نکلے۔ القُلَاعَةُ: پتھریا ڈھیلا جو پھینکنے کے لئے زمین سے اکھیڑا جائے، کہا جاتا ہے رُمِيَ بِقُلَاعَةٍ: یعنی اُسے لاجواب کر دیا گیا۔ القِلَاعَةُ: کشتی و جہاز کا بادبان۔ القَلَّاعُ: وہ شخص جو حملہ یا زین پر قائم نہ رہ سکے، سپاہی، کفن چور، سپہ سالار، بڑا جھوٹا، داڑھ اکھیڑنے والا، بادشاہوں کے پاس چغلی کھانے والا۔ القَلُوعُ ج قُلُعٌ (ح): بڑی اونٹنی، کمان جو کھینچنے میں الٹ جائے۔ إِقْلَاعُ الحُمّٰى و مَقْلَعُهَا: بخار کا اترنا۔ المَقْلَعُ ج مَقَالِعُ: پتھر اکھاڑنے کی جگہ۔ المِقْلَاعُ ج مَقَالِيعُ: پتھر پھینکنے کا آلہ، گوپھن۔

۲۔ قَلِعَ ـَ قَلَعًا و قَلَعَةً الرجلُ: کند ذہن ہونے کی وجہ سے کلام کو نہ سمجھنا۔ القَلِعُ: کند ذہن جو کلام کو نہ سمجھے۔

۳۔ القَلْعُ: عمدہ سیسہ کی کان، رَصَاصٌ قَلْعِيٌّ و قَلَعِيٌّ: عمدہ کان کا سیسہ القِلْعُ: مردوں کے پہننے کی صدری۔ القَلْعُ: خون۔

۴۔ تَقَلَّعَتْ فی مشیه: اس طرح چلنا جیسے کیچڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔

۵۔ اِقْلَعَدَّ الشَّعَرُ: بال گھنگھریالے اور سخت ہونا۔ ـــ فلانٌ: خود سری کے ساتھ جانا۔

۶۔ قَلْعَطَ هُ فَتَقَلْعَطَ (عند العامة): کو بہت میلا کچیلا کرنا جس پر اس کا بہت میلا کچیلا ہونا (سریانیہ)۔ القَلْعَطَةُ عند العامة: میلا کرنا (سریانیہ)۔ المُقَلْعَطُ عند العامة: میلا، نجس (سریانیہ)۔

۷۔ اِقْلَعَطَّ الشَّعَرُ: بال گھنگھریالے اور سخت ہونا۔ القَلْعَطَةُ: بالوں کا سخت گھنگھریالے ہونا۔ المُقَلْعَطُ (فا): چھوٹے اور سخت گھنگھریالے بالوں والا سر۔

۸۔ المُقْلَعِطُّ: خوف زدہ بھاگنے والا۔

۹۔ اِقْلَعَفَّ الشيئُ: سمٹنا۔ ـت انامِلُ فُلانٍ: کی انگلیوں کا سردی یا بڑھاپے کی وجہ سے جھری دار ہونا۔

○ الحُمّٰى القُلَاعِيَّةُ: پاؤں اور منہ کی بیماری۔ مَقْلَعٌ جمع مَقَالِع: پتھر کی کان۔ اِقْلَاع: بحری جہاز کی روانگی، بحری جہاز کا چلنا، ہوائی جہاز کا اٹھنا، پرواز کرنا۔ قُلْعُوط: کافر، بدعتی۔

قلف: ا۔ قَلَفَ ـِ قَلْفًا الشجرةَ: درخت سے چھال اتارنا۔ ـــ الظُّفرَ: کو جڑ سے اکھاڑ لینا۔ قَلَفَ قَلْفًا و قَلْفَةً ـــ الدَّنَّ: مٹکے کے سرے پر کی مٹی چھڑانا۔ قَلَفَ ـُ قَلْفًا القُلْفَةَ: کو کاٹنا۔ قَلِفَ ـَ قَلَفًا الصبيُّ: بے ختنہ ہونا یا اس کے عضو تناسل کی کھال کا بڑا ہونا صفت: اَقْلَفُ۔ قَلَّفَ الجزورَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَقَلَّفَ القشرُ عن الشجرةِ: درخت سے چھال کا اترنا۔ اِقْتَلَفَ الظفرَ: کو جڑ سے کاٹ لینا۔ اکھیڑنا القِلْفُ: واحد قِلْفَةٌ: درخت کی چھال۔ القِلْفَةُ: ناخن جڑ سے اکھڑا ہوا۔ القُلْفَةُ و القَلَفَةُ ج قُلَفٌ: عضو تناسل کی کھال۔ القُلَافَةُ: درخت وغیرہ کی چھال۔ القَلِيفُ: مٹکا جس کے سرے سے مٹی چھڑا دی گئی ہو۔ واحد قَلِيفَةٌ: دریائی کھجور جس کا چھلکا اتر گیا ہو۔ خشک میوہ ج قُلُفٌ و القَلِيفَةُ ج قَلِيفٌ و المَقْلُوفَةُ ج مَقْلُوفَاتٌ: بڑا ٹوکرہ۔ الاَقْلَفُ مونث قَلْفَاءُ ج قُلْفٌ: بے ختنہ، عضو تناسل کی بڑی کھال والا، کہا جاتا ہے۔ هُوَ اَقْلَفُ القَلْبِ: وہ اچھی باتوں کو قبول نہیں کرتا اور کہا جاتا ہے۔ عَامٌ اَقْلَفُ: سرسبز سال اور عَيْشٌ اَقْلَفُ: خوش حال زندگی۔ التَقْلِيفُ: کھجور سے گٹھلی جدا کرنا اور برتن میں ذخیرہ کرنا۔ المَقْلُوفُ: مٹکا جس کے سرے سے مٹی چھڑائی گئی ہو۔

۲۔ قَلَفَ ـِ قَلْفًا الشيئَ: کو پلٹنا۔

۳۔ قَلَفَ ـِ قَلْفًا و قَلْفَةً و قَلَّفَ السفينةَ: کشتی کے تختوں کو کھجور کے درخت کی چھال سے جوڑنا اور ان کے درمیان تارکول ڈالنا اسم القِلَافَةُ ہے۔

۴۔ اِنْقَلَفَت السُّرَّةُ: ناف کا موٹائی کی وجہ سے سلوٹ والی ہونا۔ القِلْفُ واحد قِلْفَةٌ: سخت جگہ۔ القَلْفَةُ من الشفاة: ہونٹ جس میں موٹائی ہو۔

۵۔ قَلْفَحَ الطعامَ: سب کھانا کھا لینا۔

۶۔ تَقَلْفَعَ عنه الشيئُ: سے کا چھل جانا۔ القِلْفَعُ و القِلْفِعُ: خشک کیچڑ کا پھٹا ہوا ٹکڑا، لوہے کے ذرات جو ڈھالتے وقت گریں۔ القِلْفِعَة: سانپ کی چھتری، زمین کی مٹی جو سانپ کی چھتری کے اگنے سے ہٹ جائے، اونٹ کی کھال پر چھال کی مانند داغ۔

○ قَلْفَة جمع قلفات: فورمین، بل مزدور، محنت مشقت کرنے والا۔ قَلْفُون و قَلْفُونِيَة: گندہ بروزہ، عام یا سیاہ رال۔

قلق: ا۔ قَلَقَ ـَ قَلْقًا الشيئَ: کو حرکت دینا۔ قَلِقَ ـَ قَلَقًا: مضطرب ہونا، بے قرار ہونا صفت مذکر قَلِقٌ و مِقْلَاقٌ: صفت مونث قَلِقَةٌ و مِقْلَاقٌ۔ اَقْلَقَ هُ: کو بے قرار کرنا۔ ـــ الشيئَ من مكانه: کو اس کی جگہ سے حرکت دینا۔ ـــ القومُ السيوفَ في الغمد: آسانی کیلئے تلواروں کو میان ہی میں حرکت دینا۔

۲۔ القَلْقَاسُ (ن): اروی (یونانیہ) ـــ الرومی و الكنكر: آلو کی شکل کی سبزی کچالو۔

○ مُقْلِق: سازشی، موذی، مصیبت شخص۔

○ قَلْقَلَ ہ/ ہ: کو ہلانا، جھنجوڑنا، غیر یقینی بنانا، کو درہم برہم کرنا، میں خلل ڈالنا، کو پریشان کرنا، میں ہیجان پیدا کرنا، ہلچل ڈالنا، اضطراب پیدا کرنا، کو برانگیختہ کرنا۔ ـــ ہ: کو جوش میں لانا، بھڑکانا، بغاوت پر اکسانا۔ تَقَلْقَلَ: حالت اضطراب میں ہونا یا ہو جانا، ہل جانا، جھنجوڑا جانا، پریشان ہونا، تشویش میں مبتلا ہونا، بے چین ہونا، مضطرب ہونا، جوش میں آنا، بھڑکنا، بغاوت پر برانگیختہ ہونا۔ ـــ من: اپنی جگہ سے ہلنا، حرکت کرنا۔ ـــ: (صورت حال کا) غیر محفوظ ہونا، غیر یقینی ہونا۔ قَلْقَلَة جمع قَلَاقِل: عام بے چینی، گڑبڑ، جوش، اضطراب، ہنگامہ، ہلچل، افراتفری، شورش، بلوہ، کھلبلی، تصادم، صدمہ۔ قُلَيْقَلَة جمع قليقلات: ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلا۔ مُقَلْقَل: حالت اضطراب میں، بڑھکا ہوا، ہلایا ہوا، غیر یقینی، درہم برہم، ہیجان زدہ، ہلچل میں آیا ہوا وغیرہ۔

قلم: ا۔ قَلَمَ ـِ قَلْمًا و قَلَّمَ الشيئَ: کو کاٹنا۔ قَلَّمَ الشيءَ: کو تھوڑا تھوڑا کاٹنا۔ ـــ الظفرَ: ناخن تراشنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

القَلَمُ ج اَقْلامٌ و قِلامٌ: قلم، قلم کا اطلاق بن جانے کے بعد ہوتا ہے بننے سے پہلے اسے قصبہ یا براعۃ کہتے ہیں۔ تیر جو جواریوں کے درمیان گھمایا جاتا ہے۔ القُلامَۃُ: تراشہ۔ قُلامَۃُ الظفر: ناخن کا تراشہ۔ الاِقْلِیمُ ج اَقالِیمُ: ملک، صوبہ، ربع مسکون کا ساتواں حصہ۔ الاِقْلِیمِیَّۃُ: اقلیمیہ علاقائیت، علاقائی خودمختاری، علاقہ پرستی، الاِقْلِیمِیُّ: مذہب اقلیمیہ کا پیرو۔ علاقائی خودمختاری کا مطالبہ کرنے والا، علاقہ پرست۔ التَقْلِیمُ: اور بقول بعض التَشْحِیلُ (ز): درخت کی قطع و برید کرنا، درخت چھانٹنا۔ المِقْلامُ: قینچی۔ المِقْلَمَۃُ ج مَقالِمُ: قلمدان مَقالِمُ الرُمْحِ: نیزے کی گرہیں کہا جاتا ہے فُلانٌ مَقْلُومُ الظُفْرِ وَمُقَلَّمُ الظُفُر یعنی فلاں ضعیف و ذلیل ہے۔

۲۔ القَلَمُ ج قَلَمَۃٌ: جس کی بیوی نہ ہو۔ کنوارا۔ المُقَلَّمَۃُ: بیوہ عورت، کہا جاتا ہے سَارَتْ اَلْفٌ مُقَلَّمَۃٌ: یعنی ایک ہزار فوجیوں کی ہتھیار بند فوج روانہ ہوئی۔

۳۔ قَلَمَعَ رأسَہُ: کے سر پر مار کر اسے جدا کرنا ـــ الشیئَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ القَلَمَعَۃُ (مص): کمینے لوگ۔

قلن: ا۔ قَلْنَسَ ہُ: کو ٹوپی پہنانا۔ ـــ الشیئَ: کو چھپانا۔ تَقَلْنَسَ: ٹوپی پہننا۔ القَلَنْسُوَۃُ والقُلَنْسِیَۃُ ج قَلانِسُ وقَلانِیسُ و قَلاسٍ و کَلاسِیٌّ اور تصغیر قُلَیْنِسَۃٌ و قُلَیْسِیَۃٌ: ٹوپی، (مختلف شکل کی) پادری جس ٹوپی کو استعمال کرتا ہے اس کو عوام قَلْوسَۃ کہتے ہیں (لاتینیہ)۔

۲۔ قَلْنَسَ الرجلُ: سینہ پر ہاتھ رکھ کر فروتنی کی طرح کھڑا ہونا۔

قلو: ا۔ قَلاَ ـــ قَلًا و قَلاءً الرجلَ: سے بغض رکھنا۔ تَقَلّیٰ الیہ: سے نفرت کرنا، بغض رکھنا۔ تَقالَی الرجُلان: ایک دوسرے سے بغض رکھنا، کہا جاتا ہے۔ بَیْنَھُمْ تَقالٍ: ان کے درمیان باہمی بغض ہے۔

۲۔ قَلاَ ـــ قَلْوًا اللحمَ وغیرَہُ: گوشت وغیرہ کڑاہی میں بھوننا صفت فاعلی قَلّاءٌ: اور صفت مفعولی مَقْلُوٌّ۔ تَقَلّیٰ علیٰ فراشہ: بستر پر تلملانا۔ اِقْلَوْلیٰ اِقْلِیلاءً: بے آرام ہونا، جگہ سے علیحدہ ہونا، سکڑنا، کوچ کرنا، پریشان ہونا۔

۳۔ قَلاَ ـــ قَلْوًا الابلَ: اونٹوں کو ہانکنا ـــ القُلَۃَ وبالقُلَۃِ: کو پھینکنا۔ القُلَۃُ ج قُلاتٌ وقُلُونٌ و قُلُوْنٌ. والمِقْلی والمِقْلاءُ: گلی ڈنڈا۔ القِلْوُ: ہلکا پھلکا، جوان ہلکا گدھا۔ القِلْوَۃُ: جانور جو اپنے سوار کو لے کر سب سے آگے بڑھ جائے۔

۴۔ اِقْلَوْلیٰ اِقْلِیلاءً الطائرُ: پرندے کا اڑنے میں بلند ہونا۔ درخت کے اوپر کے حصہ پر اترنا ـــ ہُ: کی پیٹھ پر سوار ہونا ـــ فی الجبل: پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جھانکنا۔ القَلَوْلیٰ: بلند پرواز پرندہ۔

۵۔ القَلَۃُ: ہرن کے پھنسانے کے لئے ایک قسم کا پھندا۔ القِلْوُ: ترشہ، الکلی۔

قلی: ا۔ قَلَی یَقْلِی قَلْیًا اللحمَ وغیرَہُ: گوشت وغیرہ بھوننا صفت قَلّاءٌ: بھوننے والا المَقْلِیُّ: بھونا ہوا (گوشت)۔ القَلّاءُ: کڑاہی بنانے والا۔ کڑاہی میں گوشت بھوننے والا۔ المَقْلاۃُ: وہ جگہ جہاں گوشت کڑاہیاں تیار ہوتی ہیں۔ القَلِیَّۃُ ج قَلایَا (ط): جو بھونا جائے، شوربا جو اونٹ کے گوشت سے تیار کیا جائے۔ المِقْلَی والمِقْلاۃُ ج مَقالٍ: کڑاہی، فرائی پان۔ المَقْلاۃُ: وہ مقام جہاں کڑاہی بنائی جائے۔ المَقْلِیُّ: جو بھونا جائے۔

۲۔ قَلَی یَقْلِی قَلْیًا فلانًا: کے سر پر مارنا۔ القُلَی واحد مونث قُلَّۃٌ: پہاڑوں کی چوٹیاں، مردوں کی کھوپڑیاں۔

۳۔ القِلْیُ والقِلْیُ: کڑوے پودے سے بنی ہوئی چیز۔ القِلِّیَّۃُ: راہب کی کوٹھڑی (یونانیہ) القِلایَۃُ پادری کی رہائش گاہ (یونانیہ)

۴۔ قَلَی یَقْلِی وقَلِیَ یَقْلَی قِلیً و قَلاءً و مَقْلِیَۃً الرجُلَ: سے بغض رکھنا، صفت فاعلی قالٍ صفت مفعولی مَقْلِیٌّ۔

◌ قَلَّمَ اظافِرَ خَصْمِہِ: اپنے مخالف کو بے اثر کرنا، غیر مسلح کرنا، بِقَلَمِہِ: کے قلم سے لکھا ہوا، قلم الحبر: فاؤنٹین پین، قلم حبرٍ جافٍ اور قلم حبرٍ ناشف: بال پوائنٹ پین، قلم التحریر: ایڈیٹر کا کمرہ، خبرنویسی کا کمرہ۔ قلم الحرکۃ: محکمہ ٹریفک، قلم الحسابات: محکمہ پڑتال حسابات۔ قلم الادارۃ: دفتر انتظامیہ، صدر دفتر، قلم الرصاص: پنسل، قلم السیاحۃ محکمہ سیاحت، قلم الاستعلامات: دفتر معلومات۔ قلم المطبوعات: پریس اور معلومات کا دفتر قلم القیودات: زندگی پر اثر انداز ہونے والے اعداد و شمار کا دفتر۔ دفتر اندراج۔ قلم الکُتّاب: دفتر محررین۔ قلم الکوبیۃ: کاپنگ پنسل، آرٹ پنسل، قلم المرور: ٹریفک کنٹرول بورڈ۔ مِقْلَمَۃ جمع مِقلمات: قلمدان۔

◌ تقلیم: کاٹنا، تراشنا، کانٹ چھانٹ کرنا، کانٹ چھانٹ (درخت) کا ... الاظافر: ناخن تراشی۔ مُقَلَّمٌ: کاٹا ہوا، تراشا ہوا، کانٹ چھانٹ کیا ہوا، دھاری دار بنایا ہوا۔ مُقَلَّمُ الظُفْر: بے بس، کمزور، بے اختیار۔ اَقْلَمَ: عادی ہونا، (آب وہوا) راس آنا۔ تَأقْلَمَ: خود کو نئی آب و ہوا وغیرہ) کا عادی بنانا۔ اِقلیم جمع اقالیم: علاقہ، صوبہ، انتظامی ضلع (مدیریۃ) الاقالیم: ملک، دیہات، مفصلات، دیہات کا علاقہ۔ اِقلیمی: موسمی، موسم کا، علاقائی، مقامی، قلمرو کا، ممالک محروسہ کا۔ المیاہ الاقلیمیۃ: علاقائی سمندر، ساحلی سمندر، قَلَنْدار: گھومنے پھرنے والا درویش، قلندر، درویش۔ القِلْوِیات: ترشے، تیزاب کے ہم رشتہ ترشے۔ قَلّایَۃ: تلنے کا برتن، کڑاہی، پکانے کا برتن (ہانڈی) تَقْلِیۃ: لہسن، دھنیا اور پگھلے ہوئے مکھن سے بنائی چٹنی جو مسالہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔

◌ قَلْوَزَ: (پگڑی) باندھنا۔

◌ قَلْوَظَ: پیچوں سے جوڑنا، پیچ لگانا، پیچ کسنا۔ قَلاوُوظ: (قلاورجی کہا جاتا ہے): پیچ، جہاز کا پائلٹ۔ قَلّایَۃ: راہب کا حجرہ۔ قبطیوں کے لاٹ پادری کی رہائش گاہ۔ قِلِّیَۃ: راہب کا حجرہ۔

قمّ: ا۔ قَمَّ ـُ قَمًّا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا صفت قامٌّ و قَمّامٌ ـــ شاربَہُ: مونچھ جڑ سے مونڈنا ـــ ما علی المائدۃ: دسترخوان پر رکھا ہوا کھانا کھانا۔ تَقَمَّمَ ما علی المائدۃ: دسترخوان پر پڑا سب کچھ کھا لینا۔ اِقْتَمَّ ما علی المائدۃ: دسترخوان پر رکھا کھانا سارا کھا لینا۔ القُمَّۃُ: کوڑا گھر، شیر کا لقمہ۔ القُمامَۃُ ج قُمامٌ: جھاڑو۔ القَمِیمُ: ستو۔ المِقَمُّ و المُقْتَمُّ: دسترخوان پر پڑا سب کچھ کھا جانے والا۔ المِقَمَّۃُ ج مَقامٌ: جھاڑو۔ والمَقَمَّۃُ: پھٹے ہوئے کھر والے جانوروں کے ہونٹ۔

۲۔ قَمَّ ـُ قَمًّا الشیئُ: خشک ہونا۔ قَمَّمَ ہُ: کو خشک کرنا۔ القمیم: خشک سبزی۔

۳۔ قَمَّمَ النجم: ستارے کا آسمان کے درمیان میں پہنچنا۔ تَقَمَّمَ ـــ الشیئَ: کسی چیز پر چڑھنا ـــ النخلۃ: کھجور کے درخت پر چڑھنا اور سرے تک پہنچنا ـــ الرجلُ قِرنَہُ: ہمسر پر غالب آنا۔ القِمَّۃُ ج قِمَمٌ: ہر چیز کی چوٹی بدن، قد و قامت۔

۴۔ اِقْتَمَّ الشیئَ: سے نبٹنا، پر اعتماد کرنا، میں غلطی نہ کرنا۔

۵۔ القِمَّۃُ ج قِمَمٌ والقُمامَۃُ ج قُمامٌ: لوگوں کی جماعت۔

۶۔ قَمْقَمَ قَمْقَمَۃً ما علی المائدۃ: دسترخوان پر باقی ماندہ تلاش کر کے اکٹھا کرنا۔ رَجُلٌ قَمْقامٌ: کمینہ جو

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

گندی چیزوں کا دلدادہ ہو۔
۷۔تَقَمْقَمَ: پانی میں ڈوب جانا۔۔ الشیئَ: پر چڑھنا۔ المَقْمِقُ: پر۔القَمْقَامُ: بڑا معاملہ۔۔۔ والقُمْقُامُ والقَمَاقِمُ: کثیر تعداد، سمندر یا اس کا بڑا حصہ۔ (ح) چھوٹے بندر۔۔۔ ج قَماقِمُ و قُماقِمَةٌ بہت بخشش والا امیر۔القُمْقُمانُ: عدد کثیر، سمندر یا اس کا بڑا حصہ۔ ج چھوٹے بندر۔
۸۔تَقَمْقَمَ: بڑبڑانا، شاکی ہونا۔(عامیہ)۔
۹۔القُمْقُمُ: حلق، منکا، پانی گرم کرنے والا تانبے کا برتن، عطر فروش کا برتن، گلاب پاش (فارسیہ)۔ القُمْقُمَةُ: گلاب پاش، لمبی گردن کی بوتل۔القِمْقِمُ: خشک بچی کھجور۔القَمْقَامُ والقُمْقَامُ والقَماقِمُ والقَمْقَمانُ: واحد قَمْقَامَةٌ۔(ح)۔ جوں کی ایک قسم۔القماقمہ: ماہ ستمبر کے آخری بارہ دن جن سے آنے والے سال کے ہر مہینہ کی ہوا کا پتہ لگایا جائے۔ عام لوگ اسے بواحیر کہتے ہیں۔

قما: اقَمَا ۔ قَمْأً المکانَ و بہ: میں داخل ہونا اور اقامت کرنا۔۔۔ و قَمُوَ ۔ قَمْوًا و قُمُوْءً و قَمَاءً وقَمَاءةً الماشيةُ: جانور کا موٹا ہونا۔۔۔ ت الابلُ بالمکانِ: میں سرسبزی کی وجہ سے اقامت کرنا اور موٹا ہونا۔قَامَأَ مُقَامَأَةً: سے موافقت کرنا، کہا جاتا ہے ما قَامَأَنِي المکانُ: جگہ اسے موافق نہیں آئی۔اَقْمَأَ الشيئُ او المکانُ فلانًا: چیز یا جگہ کا کسی کو تعجب میں ڈالنا۔۔۔ ت الماشيةُ: جانور کا موٹا ہونا۔تَقَمَّأَ فلانٌ المکانَ: جگہ کا کسی کو موافق ہونا اور اس کا اس میں اقامت کرنا۔القَمْءُ: وہ جگہ جہاں اونٹ یا اونٹنی رہیں اور موٹے ہو جائیں اور اسی طرح عورت اور مرد بھی۔القُمَاةُ: سرسبزی۔القَمْأَةُ: سرسبزی۔۔۔ ج قِمَاءٌ والمَقْمَأَةُ والمَقْمُوْءَةُ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے۔
۲۔قَمَأَ ۔ قُمْأً: کو اکھیڑنا۔۔۔ وقَمُؤَ ۔ قَمَاءً و قُمَاءَةً وقِمَاءةً و قَماءَةً: ذلیل و خوار ہونا صفت قَمِيئٌ ج قِمَاءٌ و قَمَاءٌ ۔ اَقْمَأَ الرجلَ: کو ذلیل کرنا۔ القَمْأَةُ و القُمْأَةُ: آرام سکون، دلجمعی۔القمیئُ: ذلیل و خوار۔
۳۔تَقَمَّأَ الشیئَ: کو تھوڑا تھوڑا جمع کرنا، عمدہ چیز لینا۔اِقْتَمَأَ الشیئَ: کو جمع کرنا۔

قمح: اقَمَحَ ۔ قُمُوْحًا و قَامَحَ و اِنْقَمَحَ البعيرُ: سیرابی کی وجہ سے پینے سے رک جانا صفت قَامِحٌ ج قِمَاحٌ و قُمَّحٌ۔ قَمَّحَ فلانًا: کو حق سے کم دے کر ہٹانا۔ اَقْمَحَ الرجلُ: سر اٹھانا اور آنکھ بند کرنا۔۔۔ بانفه: بڑائی جتانا، مغرور ہونا۔۔۔ الغُلُّ الاسيرَ: آہنی طوق کا تنگی کی وجہ قیدی کے سر کو نکلا ہوا چھوڑ دینا۔تَقَمَّحَ البعيرُ: سیرابی کی وجہ سے پینے سے باز رہنا اور سر اٹھانا۔۔۔ الشرابَ و من الشرابِ: کو ناپسند کرنا۔شَهْرَا قِمَاحٍ و قِمَاحٍ: دو رومی مہینوں کے نام کانون اول، کانون ثانی۔(دسمبر اور جنوری)
۲۔قَمِحَ ۔ قَمْحًا و تَقَمَّحَ و اِقْتَمَحَ السويقَ: ستو پھانکنا۔۔۔ الشرابَ: کو ہتھیلی پر لینا اور چاٹنا۔اَقْمَحَ فلانٌ: شراب پینا۔القُمْحَةُ: پھنکی یا پانی سے منہ بھرا ہوا۔(منہ بھر پھنکی، منہ بھر پانی) رَجُلٌ قَمُوْحٌ للنبيذ: نبیذ بہت پینے والا۔القَمِيحَةُ: پھنکی (ستو یا دوا وغیرہ کی)۔
۳۔اَقْمَحَ السنبلُ: خوشہ میں دانہ بیٹھنا، بننا۔۔۔ البُرُّ: گندم کا پکنا۔القَمْحُ: گندم واحد قَمْحَةٌ: گندم کا دانہ۔القَمْحِيَّةُ اور اسے قِلْيَةٌ بھی کہتے ہیں (ط): ابلی ہوئی چھلکے سمیت گندم میں چینی گلاب کا عرق اور انار دانہ و صنوبر دانہ وغیرہ ملا کر تیار کیا ہوا حلوہ۔
۴۔القُمْحَةُ و القُمَّحَانُ و القُمَّحَانُ (ن): زعفران۔القَمَحَانَةُ: سر کے پچھلے حصہ میں اٹھی ہوئی جگہ اور گدی کے گڑھے کے درمیان کی جگہ۔
۵۔القَمَحْدُوَةُ ج قَمَاحِدُ: سر کے پچھلے حصہ میں اٹھی ہوئی جگہ۔
(ف) قَمَّحَ ہ: صرف ایک حصہ دینا، کو قسطوں میں ادائیگی کرنا قَمْحِيٌّ: گندم گوں۔قَمْحَة: جمع قمحات: گیہوں کا مغز، گرین = 1/4 قیراط۔قَمَّاح: غلہ فروش، آٹے دال کی دکان والا۔

قمد: قَمَدَ ۔ قَمْدًا و قُمُوْدًا: انکار کرنا، باز رہنا، نیکی یا بدی میں لگا رہنا۔قَمِدَ ۔ قَمَدًا: لمبی اور موٹی گردن والا ہونا صفت اَقْمَدُ: مونث قَمْدَاءُ۔اَقْمَدَ الرجلُ: گردن بلند کرنا۔القُمُدُ و القُمَادُ: مضبوط، موٹا۔القُمُدُّ: مضبوط، موٹا۔ و القُمُدَّةُ و القُمُدَّانِيَةُ: لمبی گردن والی اور بقول بعض موٹی اور لمبی گردن والی۔

قمر: اقَمَرَ ۔ قَمْرًا: جوا کھیلنا۔۔۔ الرجلَ: پر جوئے میں غالب آنا۔۔۔ الرجلَ مالَهُ: کا مال چھین لینا۔قَامَرَ مُقَامَرَةً وقِمَارًا ہُ: باہم جوا کھیلنا۔تَقَمَّرَ الرجلَ: پر جوئے میں غالب آنا۔تَقَامَرَ القومُ: باہم جوا کھیلنا۔القِمَارُ (مص): جوا۔القَمِيرُ ج اَقْمَارٌ: (جیسے نصیر ج انصار): جواری، کہا جاتا ہے هُوَ قَمِيرُكَ: وہ جوئے میں تمہارا ساتھی ہے۔
۲۔قَمِرَ ۔ قَمَرًا الشيئُ: بہت سفید ہونا۔۔ الرجلُ: برف کی وجہ سے چندھیانا، چاندنی رات میں بے خواب ہونا۔اَقْمَرَ الليلُ: چاندنی کا کھیت کرنا۔۔۔ الهلالُ: ہلال کا پورا چاند بننا۔۔۔ القومُ: چاندنی میں ہونا، چاند کے نکلنے کا انتظار کرنا۔تَقَمَّرَ: چاندنی رات میں شکار کے لئے نکلنا۔۔۔ الرجلُ: کے پاس چاندنی رات میں آنا۔۔۔ الطيرَ: پرندے کو شکار کے لئے رات میں آگ سے چندھا کر دینا۔۔۔ الطيرَ و الظباءَ: پرندوں یا ہرنیوں کا چاند کی روشنی میں شکار کرنا۔
اِقْمَارَّ اِقْمِيرَارًا: سفید ہونا، چاند کے رنگ کا ہونا۔
القَمَرُ ج اَقْمَارٌ (فلك): چاند، تین رات سے لے کر آخر ماہ تک کو قمر کہتے ہیں اور اس سے پہلے ہلال، کہا جاتا ہے اِسْتَرْعَيْتُهُ الشَّمْسَ و القَمَرَ: یعنی میں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔القَمَرَانِ (فلك): آفتاب و ماہتاب۔الاقمار التوابع (فلك): اجرام فلکی جو سیاروں کے گرد گردش کرتے ہیں جیسے چاند زمین کے۔مثلاً مریخ کے دو چاند اور مشتری اور زحل کے کئی چاند۔اَقْمَارُ العِلْمِ و شُمُوْسُهُ: علماء۔القُمْرَةُ: سبزی مائل سفید رنگ، تیسری رات کا چاند۔لَيْلَةٌ قَمِرَةٌ: چاندنی رات۔الحُرُوْفُ القَمَرِيَّةُ: چودہ حروف ہیں جن کے ساتھ تلفظ میں لام پڑھا جاتا ہے جیسے اَلْقَمَرُ میں۔الاَقْمَرُ: سفید، سبزی مائل سفید رنگ والا وَجْهٌ اَقْمَرُ: چاند کے مشابہ چہرہ۔القَمْرَاءُ: الاقمر کا مونث: چاند کی روشنی۔القُمْرِيُّ ج قُمْرٌ وقَمَارِيُّ مونث قُمْرِيَّةٌ (ح): فاختہ کی مانند ایک خوش آواز پرندہ۔القُمَيْرِيَّةُ: چھوٹی کھڑکی۔القَمَرِيَّةُ (ن): ایک بیل، جس کے پھلوں کے بیج ہلالی شکل کے ہوتے ہیں۔ترین و آرائش کے لئے بوئی جاتی ہے، ایک پھول جس کی دو قسمیں ہیں ایک سدا بہار جو خوشبودار ہوتا ہے اور ایک موکی جو بے بو ہوتا ہے۔
لَيْلَةٌ مُقْمِرَةٌ و مُقْمِرٌ: چاندنی رات، عربوں کی ایک مثال ہے اَنْشَطُ مِنْ ظَبْيٍ مُقْمِرٍ: یعنی چاندنی رات کے ہرن سے زیادہ چست اور پھرتیلا کہتے ہیں کہ چاندنی میں ہرن کو نشاط حاصل ہوتا ہے اور وہ کھیلتا کودتا ہے اور کبھی دھوکے میں آ جاتا ہے اور درندہ اسے شکار کر لیتا ہے اس وجہ سے دوسری مثال میں کہا گیا ہے اَغَرُّ مِنْ ظَبْيٍ مُقْمِرٍ یعنی چاندنی رات کے ہرن سے زیادہ دھوکے میں آنے والا۔
۳۔قَمِرَ ۔ قَمَرًا الكلأُ و الماءُ و غيرُهما: گھاس پانی وغیرہ بہت ہونا۔اَقْمَرَ ت الابلُ: اونٹوں کا سیراب ہونا، بہت گھاس میں چرنا۔الماءُ القَمِرُ: بہت پانی۔سَحَابٌ اَقْمَرُ: پانی سے بھرا ہوا بادل۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۴۔ اَقْمَرَ الثمرُ: پھل کے پکنے میں تاخیر ہونا یہاں تک کہ سردی آجائے، پکنے سے پہلے سردی آجانا اور مٹھاس جاتا رہنا۔

۵۔ قَمْرَةُ المَرْكَبِ عند المَلاَّحِيْن: یہ کامیرا سے معرب اطالوی لفظ ہے بمعنی کوٹھری۔ المَقْمُوْرُ (مفع) برائی، ناپسندیدہ بات، اسی سے ایک مثال ہے۔ وَضَعْتُ يَدِيْ بَيْنَ إِحْدَى مَقْمُوْرَتَيْنِ: میں نے برائیوں میں سے ایک برائی میں ہاتھ ڈالا۔

قمز اِقْمَزَ ـِ قَمْزًا الشيئَ: کو اکٹھا کرنا، کو انگلیوں کے کناروں سے پکڑنا۔ اَقْمَزَ الرجُلُ: بیکار چیزوں کا ذخیرہ کرنا۔ القَمْزُ: بےکار مال۔ القُمْزَةُ ج قُمَزٌ: کھجور کی ایک مٹھی، نباتات کا ایک شگوفہ جس میں دانہ ہو۔

۶۔ قَمَزَ ـِ قَمْزًا بمعنی قَفَزَ۔ (عوام کے حسب استعمال۔)

قمس اِقْمَسَ ـِ قَمْسًا ہُ فی الماءِ: کو پانی میں غوطہ دینا ـــ ت الدلوُ فی الماءِ: ڈول کا پانی میں ڈوب جانا ـــ بہ فی البئرِ: کو کنویں میں پھینکنا ـــ الولدُ فی البطنِ: بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا۔ قَمَسَ ـِ قَمْسًا و قُمُوْسًا فی الماءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔ قَمَّسَ الرجُلُ: اونٹوں کو سیراب کرنا۔ قَامَسَ قِمَاسًا و مُقَامَسَةً ہُ: سے غوطہ لگانے میں مقابلہ کرنا۔ اَقْمَسَ الكوكبُ: ستارے کا غروب ہونا۔ ـــ ہُ فی الماءِ: کو پانی میں غوطہ دینا ـــ الولدُ فی البطنِ: بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا۔ تَقَامَسُوْا فی الماءِ: باہم غوطہ زنی کرنا۔ اِنْقَمَسَ فی الماءِ: پانی میں غوطہ لگانا ـــ فی الرکیۃِ: کنویں میں کود پڑنا ـــ الکوکبُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ القَامُوْسُ ج قَوَامِيْسُ: سمندر، سمندر کا بڑا اور گہرا حصہ، علامہ مجد الدین فیروز آبادی کی علم لغت میں ایک مشہور کتاب۔ موجودہ زمانہ میں ہر لغت کی کتاب کو قاموس کہتے ہیں۔ القِمَّاسُ: کنویں میں پانی کی زیادتی۔ القِمَّاسُ: غوطہ خور۔ القَمُوْسُ: کنواں جس میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈول ڈوب جائے۔ القَمِيْسُ: سمندر۔ القِمِّيْسُ ج قَمَامِيْسُ: سمندر۔ القَوْمَسُ ج قَوَامِسُ: سمندر کی گہرائیاں، سمندر کے پانی کا بڑا حصہ۔ القَوَامِسُ: مصیبتیں۔

۲۔ قَامَسَ قِمَاسًا و مُقَامَسَةً ہُ: سے مناظرہ کرنا، مباحثہ کرنا، کہا جاتا ہے هُوَ يُقَامِسُ حُوْتًا: وہ مچھلی سے غوطہ لگانے میں مقابلہ کرتا ہے یعنی اپنے سے زیادہ علم والے سے مباحثہ کرنا۔

۳۔ القَمْسُ ج قَمَامِسُ و قَمَامِسَةٌ: شریف انسان۔ القَوْمَسُ ج قَوَامِسُ: امیر۔

قمر قَمَرَ ـِ قَمْرًا ہُ: کو جوئے میں ہرانا، قَمِرَ: جوئے میں ہار جانا۔ قَمِرَ ـَ قَمَرًا: برف چندھا ہونا یا ہو جانا۔ قَمَّرَ ہُ: (روٹی، ڈبل روٹی وغیرہ) سینکنا۔ قَامَرَہُ: کے ساتھ جوا کھیلنا ـــ ب: کو شرط یا داؤ کے طور پر رکھنا، کو خطرے میں ڈالنا، کا خطرہ مول لینا ـــ علی: پر بازی لگانا، پر سٹا کرنا۔ قامر علی الجوادِ الخاسر: غلط گھوڑے پر بازی لگانا۔ اَقْمَرَ: (رات کا) چاندنی ہونا۔ حجر القمر: جپسم کی ایک قسم۔ قَمَرَة جمع قَمَرات: ہلال، نیا چاند، چاندنی، روشندان۔ قَمَر: برف کوری ـــ جمع اقمار: چاند، نقلی چاند (مصنوعی سیارہ)۔ قَمَرِيَّة جمع قَمَرِيَّات: روشندان، چھوٹی کھڑکی۔ اَقْمَر مونث قَمْرَاء: چاندنی (رات) روشن، چاند جیسا سفید، سفیدی مائل۔ مَقْمَر و مَقْمَرة جمع مَقَامِر: جوا خانہ۔ قِمار: جوا، بازی، شرط لگانا۔ آلة لعب القِمار: سکہ ڈال کر جوئے وغیرہ کا ٹکٹ نکالنے والی مشین۔ مُقَامَرَة: جوا کھیلنا۔ مُقَمِّر و مُقَمِّر کهربائي: ٹوسٹر، توس سینکنے والی مشین۔ مُقَمَّر: ڈبل روٹی کے ٹکڑے جو آگ پر سینکے ہوئے ہوں، روٹی جو آگ پر سینکی گئی ہو۔ مُقَامِر: جوئے باز۔ مُقْمِر: چاندنی (رات)۔ قَمْرة و قَمْرَة جمع قَمَرات: برتھ (Berth)، جہاز میں دیوار گیر بستر یا نشست، کیبن (Cabin)، خاص کمرہ (State Room)۔ قُمْرُق جمع قَمَارِق: محصول درآمد (و برآمد)۔

قمش قَمَشَ ـُ قَمْشًا و قَمَّشَ القُماشَ: کو ادھر ادھر سے جمع کرنا۔ تَقَمَّشَ: جو کچھ ملے اسے کھا جانا اگرچہ معمولی ہو۔ اِقْتَمَشَ القُماشَ: کو ادھر ادھر سے کھانا۔ القَمْشُ (مص): نکمی چیز۔ القُمَاشُ جمع اَقْمِشَة: روئے زمین پر پڑے ہوئے ٹکڑے، کپڑا۔ قُماشُ كلِّ شيءٍ: ہر چیز کے ٹکڑے ـــ قُماشُ النَّاسِ: رذیل لوگ۔ قُماشُ البَيْتِ: گھر کا سامان، فرنیچر ـــ قُماشُ الثَّوْبِ (ت): کپڑا کہتے ہیں ھذا الثوبُ جَيِّدُ القُماشِ: یہ کپڑا عمدہ بافت (بناوٹ) والا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ثوبٌ مُقَمَّشٌ: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔ القَمَّاشُ: کپڑا فروش۔ سامان بیچنے والا۔ قَمْشَة: چمڑے کی پٹی، فیتہ، تسمہ، موزا، چابک، گائے کی ادھوری قماش ج اَقْمِشَة: کپڑا۔

قمص اِقْمَصَ ـُ قُمَاصًا و قِمَاصًا و قَمْصًا الفَرَسُ و غَيْرُهُ: گھوڑے کا اگلی دونوں ٹانگوں کو اکٹھا ہی اٹھانا اور اکٹھا ہی رکھنا ـ البعیرُ: اونٹ کا کودنا اور بھاگنا ـــ قَمْصًا منہ: سے نفرت کرنا، اعراض کرنا۔ ـــ ت الناقةُ بالرديفِ: کو اونٹنی کا اچھلتے ہوئے لیجانا ـــ البحرُ بالسفينةِ: اچھلتے سمندر کا کشتی کو اس طرح متحرک کرنا جیسے کشتی اونٹ کی طرح دوڑ رہی ہو۔ قَمَّصَ البحرُ بالسفينةِ: بمعنی بالا۔ القِماص (مص): قَلِقَ۔ القُمُّصُ: وہ جانور جو اپنے سوار کو لے کر اچھلے (ح): شیر، بے آرام جس کو قرار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے فُلاَنٌ قُمُّصُ الحَنْجَرَةِ: فلاں بڑا اچھوتا ہے۔ القَمِيْصُ: وہ جانور جو اپنے سوار کو لے کر اچھلے۔

۲۔ قَمَّصَ ہُ: کو قمیص پہنانا۔ الثوبَ: سے کرتا قطع کرنا۔ تَقَمَّصَ: کرتا پہننا اور استعارہ کی بناء پر کہا جاتا ہے۔ تَقَمَّصَ الوِلاَيَةَ وَالاَمَارَةَ و تَقَمَّصَ لِبَاسَ العِزِّ: اس نے ولایت امارت اور عزت کی قمیص پہن لی یعنی نظام سنبھال لیا۔ ـ ت الروحُ: ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا۔ بعض کے نزدیک جسموں کو روحوں کی قمیص بنانا کہ روحیں ایک قمیص سے دوسری قمیص میں منتقل ہوجاتی ہیں۔ القَمِيْصُ ج اَقْمِصَةٌ و قُمُصٌ و قُمْصَانٌ: کرتا۔ (مذکر مونث) نوزائیدہ بچے کے اوپر کی جھلی، دل کا غلاف کہا جاتا ہے۔ هَتَكَ الخَوْفُ قَمِيْصَ قَلْبِهِ: خوف نے اس کے دل کے غلاف کو پھاڑ دیا۔

۳۔ القُمَّصُ واحدہ قُمَّصَةٌ (ح): انڈے سے نکلے ہوئے ٹڈی کے تازہ بچے۔ (ح): مکھیاں یا مچھر جو پانی کے اوپر اڑتے ہیں۔

قَمَصَ ـُ قَمْصًا و قماصا و قِماصًا: سرپٹ دوڑنا، اچھلنا، کودنا، پھاندنا، پھلانگنا، چھلانگ لگانا، لات مارنا۔ قَمَّصَ: بمعنی بالا۔ قَمْص: سرپٹ دوڑ۔ قَمَّصَ ہ: کو قمیص پہنانا۔ تقمّص: قمیص پہننا ـ ہ: میں لپٹنا، کے لبادہ میں چھپنا ـــ (روح کا) دوسرے جسم میں جانا، تناسخ ہونا، دوسرے جسم میں مادی صورت میں آنا۔ قَمِيص جمع قُمُص و اَقْمِصَة و قُمْصان: قمیص، فراک، گون، جبہ، عبا، پوشش، ڈھکنا، سرپوش، چادر شال وغیرہ، لفافہ، جیکٹ، پادریوں وغیرہ کا سفید جبہ، تجسیم۔ (مسیحیت میں) قميص افرنجي: دن کی قمیص، اوپر کی قمیص۔ قميص النوم: رات کا جبہ، عبا۔ تقمیص و تَقَمُّص: روح کا دوسرے جسم میں جانا، تناسخ۔ قُمُّص جمع قَمَامِصَة: لاٹ پادری۔

قمط اِقْمَطَ ـُ قَمْطًا و قِمَاطًا و قَمْطَةً ہُ: کے ہاتھ پاؤں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

باندھ دینا جیسے گہوارہ میں چھوٹے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے جاتے ہیں۔ القِمَاطُ ج قُمُطٌ: رسی جس سے ہاتھ پاؤں باندھیں، چوڑا کپڑا جس سے گہوارہ میں بچے کو لپیٹ دیں۔ —— و القِمْطُ: رسی جس سے بکری کی ٹانگوں کو ذبح کرتے وقت باندھیں۔ —— القَمَّاطُ: بچوں کو گہوارہ میں باندھنے کے لئے پٹی بنانے والا۔

۲۔ قَمَطَ ـِ قَمْطًا و قَمَّطَ طعمَ الشیئِ: کو چکھنا۔ ـ الشیئَ: کو لینا۔ القَمَّاطُ: چور۔ القُمَّاطُ: (بہت سے) چور۔

۳۔ قَمَطَ ـُ قَمْطًا و قَمَّطَ الابلَ: اونٹوں کو قطار میں کرنا۔

۴۔ عَامٌ قَمِيطٌ: پورا سال کہا جاتا ہے۔ اَقَمْتُ عِنْدَهُ حَوْلاً قَمِيطًا او شَهْرًا قَمِيطًا: میں اس کے پاس ایک مکمل سال یا ایک کامل مہینہ ٹھہرا۔

۵۔ قَمْطَرَ قَمْطَرَةً الشیئُ: جمع ہونا، ـ الشیئَ: کو جمع کرنا۔ —— القِربَةَ: مشک کو بندھن سے باندھ دینا، مشک کو بھرنا۔ اِقْمَطَرَّ: سکڑنا۔ ـ للشر: برائی پر آمادہ ہونا۔ علیه الشیئُ: پر کی بھیڑ ہونا۔ القِمَطْرُ و القِمَطْرُ ج قَمَاطِرُ: بستہ، مجرموں کے پاؤں پھنسانے کی لکڑی، ٹھگنا قد موٹا مرد، مذکر و مونث اور کبھی اِمْرَأَةٌ قِمَطْرَةٌ: بھی کہتے ہیں۔ القِمَطْرِی: پستہ قد موٹا مرد، اکٹھی چال۔

۶۔ قَمْطَرَ قَمْطَرَةً العدوُّ: دشمن کا بھاگنا۔ اِقْمَطَرَّ: منتشر ہونا۔

۷۔ اِقْمَطَرَّ الیومُ: دن کا سخت ہونا۔ القُمَاطِرُ و القَمْطَرِيرُ: سخت دن یا سخت برائی۔

○ قَمَطَ ـِ قَمْطًا ہ: کو بیڑیاں ڈالنا، کو ہتھکڑی لگانا، ـ ہ: (زخم) پر پٹی باندھنا۔ قَمَّطَ: بمعنی بالا۔

قمع: ۱۔ قَمَعَ ـَ قَمْعًا ہُ: کو اس کے ارادہ سے ہٹا دینا۔ چھڑی سے مارنا، کو مغلوب و ذلیل و خوار کرنا، سر کی چوٹی پر مارنا۔ ـ البردُ النباتَ: سردی کا نباتات کو جلا دینا۔ قَمِعَ ـَ قَمَعًا تِ الظبیةُ: ہرن کی ناک میں مکھی داخل ہونا اور اس کی وجہ سے اس کا سر ہلانا۔ اَقْمَعَ ہُ: کو ذلیل و خوار کرنا، رد کرنا، آپ کہتے ہیں۔ اَقْمَعْتُهُ: یعنی فلاں میرے پاس آیا تو میں نے اسے ہٹا دیا۔ تَقَمَّعَ: ذلیل ہونا۔ —— الذبابَ: مکھی اڑانا، تم کہو گے۔ تَرَكْتُهُ يَتَقَمَّعُ: میں نے اسے بیکاری اور فراغت میں مکھی اڑاتے ہوا چھوڑا۔ اِنْقَمَعَ: ذلیل و خوار ہونا۔ القَمَعَةُ ج مَقَامِعُ (ح): مکھی جو سخت گرمی میں اونٹوں اور ہرنوں کو لگ جاتی ہے۔

المِقْمَعَةُ ج مَقَامِعُ: چھڑی، لکڑی یا لوہا جس سے انسان کو مارا جائے۔ المَقْمُوْعُ (مفع) مغلوب۔

۲۔ قَمَعَ ـَ قَمْعًا القِربةَ: باہر کی طرف مشک کے منہ کو موڑنا۔ ـ فی الشیئ میں داخل ہونا۔ ـ ت المرأة بنانها بالحناء: عورت کا پوروں کو مہندی سے رنگنا۔ ـ ما فی السقاء: مشک کے پانی کو ڈگڈگا کے پینا۔ الشرابُ: آسانی سے حلق سے اترنا۔ سمعَهُ لفلان: کی بات پر کان لگانا —— الوطب: کے سرے پر قیف لگانا۔ قَمِعَ ـَ قَمْعًا فلانٌ الدواءَ: دوا پھانکنا۔ قَمَّعَ البسرةَ و نحوَها: کھجور وغیرہ کی پینڈی کو دور کرنا۔ ـ ت البسرةُ و نحوُها: کھجور وغیرہ کی پینڈی کا دور ہونا۔ اِقْتَمَعَ ما فی الاناء: یعنی برتن میں جو کچھ تھا سب پی گیا۔ القَمْعُ و القِمْعُ و القِمَعُ ج اَقْمَاع قِيف ـ (ز): کھجور وغیرہ کے نیچے کی پینڈی۔ اور تشبیہ کی بناء پر انگشتانہ کو بھی قمع کہتے ہیں۔ القَمَعُ (ع ا): حلق کا کنارہ سانس کی نال کا کنارہ۔ —— (ع ا): نرخرہ کی ابھری ہوئی ہڈی۔ القُمْعَةُ ج قُمَعٌ: توشہ دان وغیرہ کا سربند۔ القَمْعَةُ ج قَمَعٌ: حلق کا کنارا۔ قَمَعَةُ الذَّنَبِ: دم کا کنارا۔ القَمِيْعَةُ ج قَمَائِعُ: دم کا سرا۔ القِمَعِيَّةُ (ن): ایک پھولدار پودا جس کی ایک قسم زہریلی ہے سے ایک دوا تیار کی جاتی ہے جو پیشاب آور اور مسکن ہے اس کا استعمال خطرناک ہے اس سے دل کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔

۳۔ قَمَعَ ـَ قَمْعًا الكتبَ و نحو ها: عمدہ عمدہ کتابیں وغیرہ چھانٹ لینا تَقَمَّعَ و اِقْتَمَعَ الشیئَ: کو چننا۔ القَمْعَةُ و القُمْعَةُ من المال: چنا ہوا عمدہ مال القُمْعَةُ ج قُمَعٌ: اِقْتَمَعَ سے اسم، پسندیدہ مال۔ ـ من المال: چنا ہوا مال۔ قَمَعَةُ الشیئِ ج قَمَعٌ: عمدہ چیز۔ المَقْمُوْعُ من المال: چنا ہوا مال۔

۴۔ قَمِعَ ـَ قَمَعًا ت عینُهُ: گوشۂ چشم میں ورم والی ہونا صفت قَمِعَةٌ القَمَعُ (طب): آنکھ کے گوشوں میں ورم یا سرخی یا خرابی۔ طَرْفٌ قَمِعٌ: پھنسیوں والی آنکھ۔ القَمَعَةُ ج قَمَعٌ (طب): آنکھ کا زخم۔ الاَقْمَعُ مونث قَمْعَاءُ ج قُمْعٌ و القَمُوْعُ: وہ شخص جس کی آنکھ کے گوشے میں ورم یا خرابی یا سرخی ہو۔

۵۔ قَمِعَ ـَ قَمَعًا تِ الفرسُ: ایک موٹے گھٹنے والا ہونا۔ —— عرقوب الفرس: کی ایڑی کے سرے کا موٹا ہونا۔ القَمَعُ: گھوڑے کے گھٹنے میں یا ایڑھی میں موٹاپا۔ القَمِعُ من الخیل گھوڑا جس کے ایک گھٹنے میں موٹاپا ہو۔ سَنَامٌ قَمِعٌ: بڑا کوہان۔ القَمَعَةُ ج قَمَعٌ: اونٹ کے کوہان کی چوٹی۔ الاَقْمَعُ من الخیل مونث قَمْعَاءُ ج قُمْعٌ: گھوڑا جس کے ایک گھٹنے میں موٹاپا ہو۔ القَمِيْعَةُ من الدواب جمع قَمَائِع: دونوں کانوں کے درمیان ابھرا ہوا حصہ والا جانور۔

۶۔ تَقَمَّعَ تنہا بیٹھنا۔ اِنْقَمَعَ الرجُلُ تنہا بیٹھنا۔

۷۔ تَقَمَّعَ: متحیر ہونا، مدہوش ہونا۔

۸۔ قَمْعَلَ قَمْعَلَةً النبتُ: نباتات کا غلاف نکلنا یا شگوفہ نکلنا۔ ـ الرجُلُ: سردار قوم ہونا۔ القِعْمَالُ: سردار قوم۔ چرواہوں کا سردار۔ القُمْعُلُ ج قَمَاعِلُ و قَمَاعِيلُ: تنگ منہ کی ہانڈی۔ —— و القُمعوْلُ ج قَمَاعِلُ و قَمَاعِيلُ: بڑا پیالہ۔ القُعْمُوْلَةُ ج قَمَاعِيلُ (ز): نباتات کا غلاف یا پھول کی کلی، کونپل۔ سر کے اندر گھمنا۔

○ قمع ہ/ہ: مغلوب کرنا، زیر کرنا، دبا دینا، کچل دینا، ختم کرنا، قابو میں رکھنا، روکنا، باز رکھنا، محکوم بنانا، زیر نگیں کرنا۔ قَمْع و قِمْع و قمَع جمع اَقماع: قیف، دودکش، جمع قموع: پھل کی ڈنڈی۔ قمع الخيّاط: انگشتانہ۔ قمع السيكارة: سگار کا بچا ہوا ٹکڑا۔ Cigarbutt

○ قَمْقَمَ و تَقَمْقَمَ: شکایت کرنا، بڑبڑانا۔ قُمْقُم و قُمْقُمَة جمع قَمَاقِم: لمبی گردن والی پھولی ہوئی بوتل۔

قمل: قَمِلَ ـَ قَمَلاً القومُ: کا زیادہ تعداد ہونا، سرسبز و شادابی والا ہونا۔ —— فلانٌ: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔ ـ بطنُهُ: کی توند نکلنا۔ ـ رأسُهُ: سر میں جوں والا ہونا یا بہت جوئیں والا ہونا صفت قَمِلٌ۔ —— و اقمَلَ المرعی: چراگاہ کا اگنا اور سیاہ ہونا۔ تَقَمَّلَ الرجُلُ: میں کچھ موٹائی شروع ہونا۔ القَمْلَةُ ج قَمْلٌ (ح): جوں کہا جاتا ہے۔ دَبَّ قَمْلُهُ: یعنی وہ موٹا ہوا۔ —— قَمْلُ قُرَيْشٍ: دانہ صنوبر۔ القَمَالُ (ح): جوں۔ القُمَّلُ: واحد قُمَّلَةٌ (ح): چیچڑی (ح): چھوٹی چیونٹی۔ المِقْمَلُ: فقیری کے بعد امیر ہونے والا۔

○ قَمِلَ ـَ قَمَلاً: جوؤں سے بھرا ہوا ہونا، تَقَمَّلَ: جوؤں سے بھرا ہوا ہونا۔ قَمْل واحد قملة: جوویں قَمِل: جوؤں سے بھرا ہوا۔ مُقَمَّل: جوؤں سے بھرا ہوا۔

قمن: ۱۔ تَقَمَّنَ الامرَ: کا قصد کرنا۔ کو کرنے کی غرض و غایت ہونا کا ارادہ کرنا، —— الشیئ: کو پکڑنے کے قریب ہونا۔ القَمَنُ: قریب، لائق، مناسب، یہ لفظ واحد، تثنیہ جمع مذکر اور مونث سب کیلئے ہے۔ کہا جاتا ہے۔ هٰذَا المَنْزِلُ لَكَ مَوْطَنٌ قَمَنٌ: یعنی یہ مکان اس

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لائق ہے کہ تم اس میں رہو۔ وجِئْتُ بالحدیثِ علٰی قَمِنِهٖ: یعنی میں نے اس کی روش پر بیان کیا۔ القَمِنُ: لائق، (قَمِنٌ کے ساتھ باء یا لام یا من کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے هُوَ قَمِنٌ بِکَذَا اَوْ مِنْ کَذَا اَوْ لِکَذَا: وہ اس کے لائق ہے) تیز، قریب۔ القَمِینُ ج قُمَنَاءُ و قَمِینُونَ مونث قَمِینَةٌ ج قَمِینَاتٌ و قَمَائِنُ: تیز، لائق، سزاوار، قَمِینٌ: کے شروع میں بھی باء لام یا من استعمال کیا جاتا ہے جیسے هُوَ قَمِینٌ بکذا و لکذا یا مِنْ کذا وہ اس کے لائق ہے اور کہا جاتا ہے۔ اَقْمِنْ بهذا الامر: یہ کام بہت مناسب ہے هٰذَا الاَمْرُ مَقْمَنَةٌ لِذٰلِكَ: یعنی یہ کام اس کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

۲۔ رائحةٌ قَمِنَةٌ: بدبودار۔ القَمِینُ ج قُمَنَاءُ و قَمِینُونَ مونث قَمِینَةٌ ج قَمِینَاتٌ و قَمَائِنُ: حمام کی بھٹی۔ المُقْمَئِنُّ: سکڑا ہوا۔

قمه: ۱۔ قَمِهَ ۔ قُمُوهًا البعیرُ: حوض سے سر اٹھا لینا اور پانی نہ پینا۔ ___ الشیئُ فی الماء: کبھی پانی میں ڈوبنا کبھی ابھرنا۔ القامِهُ ج قُمَّهٌ: (فا)۔ القَمَهُ: کھانے کی کم خواہش۔

۲۔ تَقَمَّهَ فی الارض: آوارہ پھرنا کہا جاتا ہے خَرَجَ فُلانٌ یَتَقَمَّهُ: فلاں اس حال میں نکلا کہ اسے کوئی علم نہیں تھا کہ کہاں جائے۔

۳۔ اِقْمَهَدَّ: جلدی کرنا، مرنا۔ ___ الرجلُ او البعیرُ: سر اٹھانا۔ ___ بالمکان: میں ہمیشہ اقامت کرنا۔ القُمْهُدُ: کمینہ، بد اصل، بد ذات مرد، بد شکل آدمی۔

قمی: قَامَی مُقَامَاةً: (یائی) هٗ: کی موافقت کرنا، کہا جاتا ہے۔ مَا یُقَامِیْنِیْ هٰذَا الشَّیئُ: یعنی یہ چیز مجھے موافق نہیں۔

قمن ⊙ تَقَمَّنَ هٗ: کچھ کرنے کا ارادہ کرنا، کچھ کرنے کا خیال ہونا۔ قَمِنٌ ب: کے لائق، کے قابل، کے شایاں، کا سزاوار، کا مستحق۔ قَمِین ب: کے لائق، قابل، شایان، کا سزاوار، مستحق کے لئے کافی، موزوں، مناسب، کے مطابق، موافق، کو گزر گزرنے والا، کا اہل، کرنے جوگ۔ مَقْمَنٌ ل: کے لئے کافی، موزوں، مناسب قَمِینَة و قَمِین جمع قمینات: پژاوہ، اینٹوں کا بھٹہ، بھٹی۔

قنّ: ۱۔ قَنَّ ۔ قَنًّا فی الجبل: پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا۔ اِقْتَنَّ اِقْتِنَانًا و اِقْتَنَنَ اِقْتِنَانًا: کھڑا ہونا۔ اِسْتَقَنَّ بالامر: کام اپنے ذمہ لینا۔ القُنُّ: چھوٹی پہاڑی۔ القُنَّةُ ج قُنَنٌ و قِنَانٌ و قُنُونٌ و قُنَّاتٌ: چھوٹی پہاڑی، پہاڑ کی چوٹی۔ قُنَّةُ کُلِّ شَیْئٍ: ہر چیز کا بالائی حصہ۔

۲۔ قَنَّ ۔ قَنًّا: لاٹھی سے مارنا۔ اِقْتَنَّ: غلام بنانا۔ القِنُّ: غلام (خود مملوک اور اس کے ماں باپ) اور یہ لفظ مذکر مونث، مفرد جمع سب کے لئے ہے اور کبھی جمع اَقْنَانٌ و اَقِنَّةٌ آتی ہے۔ القَنَانَةُ و القُنُونَةُ: غلامی، زرخرید غلامی۔

۳۔ قَنَّ ۔ قَنًّا: نگاہ ڈال کر ڈھونڈنا، خبروں کو تلاش کرنا۔

۴۔ اِقْتَنَّ: خاموش ہونا۔

۵۔ اِسْتَقَنَّ: بکریوں میں رہ کر انہیں کے دودھ پر گزارا کرنا

۶۔ القُنُّ: کرتے کی آستین۔ قُنُّ الدَّجاج: مرغی کی جائے پناہ (عامیہ سریانیہ)۔ القِنَّةُ ج قِنَنٌ: رسی کی لڑیوں میں ایک لڑی، ایک دوا کا نام۔ القَنُّ: طریقہ۔ القُنَّانُ: کرتے کی آستین۔ القِنِّینَةُ ج قَنَانِیُّ و قِنَان: شیشہ کی بوتل۔ القانُونُ ج قوانِینُ: اصل، ہر چیز کا پیمانہ، (مو): ایک قسم کا باجہ۔ شرائع اور نظاموں کا مجموعہ، اجتماعی نظام، قانون کی بہت سی اقسام ہیں مثلاً قانون اساسی یا دستوری، قانون تجارت وغیرہ۔ الحَقُّ القانُونِیُّ: عیسائیوں کی شریعت کا مجموعہ۔ ___ (ع ج) الجبرا کا قاعدہ، اسے دستور یا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔

قنأ: ۱۔ قَنَأَ ۔ قُنُوءًا ت اللحیةُ من الخضاب: داڑھی کا خضاب سے سیاہ ہونا۔ ___ الشیئُ: گہرا سرخ رنگ والا ہونا۔ قَنَأَ اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا۔ ___ لحیتَهٗ: داڑھی کو خضاب سے سیاہ کرنا۔ قَنِیَٔ ۔ قُنُوءًا ا الادیمُ: چمڑے کا خراب ہونا۔ قَنَّأَ تقنئةً و تَقْنِیئًا لحیتَهٗ: داڑھی کو خضاب سے سیاہ کرنا۔ اَقْنَأَ الادیمَ: چمڑے کو خراب کرنا۔ اَحْمَرُ قانِیٌٔ: بہت گہرا سرخ۔ المَقْنَاةُ و المَقْنُؤَةُ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پڑے۔

۲۔ قَنَأَ ۔ قَنْأً الرجلَ: کو قتل کرنا یا اسے کسی دوسرے کو قتل کرنے پر برانگیختہ کرنا۔ قَنِیَٔ ۔ قُنُوءًا: مرنا۔ اَقْنَأَ الرجلَ: کو قتل کرنا۔ ___ الشیئُ فلانًا: کیلئے ممکن ہونا اور کے قریب ہونا۔

۳۔ القِنْبِلُ: ہاتھی کی گردن، پست قد عورت۔

⊙ قُنٌّ جمع قِنَانٌ: مرغیوں کا ٹوکرا، ٹاپا، ڈربہ۔ قِنّ جمع اَقْنَانٌ و اَقِنَّةٌ: غلام، زرخرید غلام۔ قِنَّة: بارزد، بریجا (مخصوص بو والی ایک قسم کی لاکھ جو بعض ایشیائی پودوں سے حاصل کی جاتی ہے اور دوائیوں نیز دھونی دینے میں استعمال ہوتی ہے)۔ قُنَّة جمع قُنَّات و قُنَن و قِنَان و قُنُون: پہاڑ کی چوٹی۔ قُنُونَة: غلامی، زرخرید غلامی۔ قِنِّینَة جمع قنانی:

makiat.com

ڈاٹ والی چھوٹی سی بوتل، چھاگل، شیشی۔ قَنَّنَ: قانون بنانا، قانون سازی کرنا۔ ___ هٗ: کچھ معین کرنا، تعین کرنا۔ قَانُون جمع قوانین: قانون شریعت، دینی فتوٰی، مسلمہ اصول، بنیادی قاعدہ، ضابطہ، فرمان، ہدایت، حکم، اصول اخلاق، تحریری قانون، مجموعہ قوانین، ضابطہ، قوانین، ٹیکس، محصول، خراج، زیتون اور کھجوروں پر ٹیکس (تونس میں) ایک آلہ موسیقی، القانون الاساسی: بنیادی دستوری مجموعہ قوانین۔ تحریری قانون۔ قانون التأسیس: دستور، القانون الجنائی: تعزیری قانون، قانون فوجداری۔ قانون و الاحوال الشخصیة: ذاتی یا نجی امور کے متعلق قانون۔ القانون الدستوری: آئینی قانون القانون الدُّوَلی: بین الاقوامی قانون۔ قانون المرافعات: طریق کار کا قانون، قانونُ اصولِ المحاکمات الحقوقیة بمعنی بالا۔ قانونُ السِلك الاداری: انتظامی قانون۔ قانونٌ کیماوی: کیمیائی فارمولا۔ القانون المدنی: شہری قانون، قانون دیوانی، قانونی: قانونی، قانون کے مطابق، جائز، قانون کی نظر میں، ماہر قانون صیدلی قانونی: تصدیق شدہ اور لائسنس یافتہ دوا ساز۔ غیر قانونی: غیر قانونی، خلاف قانون، ناجائز۔ قانُونِیة: قانون کی مطابقت۔ تقنین: دستور سازی، قانون کی تدوین، قانونی قاعدہ، راشن بندی۔ مُقَنِّن: قانون ساز، قانون سازانہ، مُقَنَّن: معین شدہ، تعین کردہ۔

⊙ قنال: کینال (نہر) قنال السویس: نہر سویز۔

قنب: ۱۔ قَنَبَ ۔ قُنُوبًا فی الشیئ: میں داخل ہونا۔ ___ ت الشمسُ: آفتاب کا غروب ہونا۔ قَنَّبَ الزرعُ: خوشہ کے پتے ظاہر ہونا۔ ___ الزهرُ: پھول کا کلی سے نکلنا۔ ___ الاسدُ بمخلبه: شیر کا چنگل کو سمیٹ لینا۔ اَقْنَبَ: قرض خواہ سے یا طاقتور سے چھپنا۔ تَقَنَّبَ الرجلُ فی بیته: میں داخل ہونا۔ القُنْبُ: بڑا بادبان، شیر کا چنگل۔ ___ من کف الاسد: شیر کی ہتھیلی کا وہ حصہ جس میں وہ اپنے چنگل داخل کر لیتا ہے۔ قُنْبُ الزَّهْرِ: پھول کا غلاف ج قُنُوبٌ۔ القِنَابُ: شیر کا پنجہ۔ والقُنَابُ و اصْقِنَابَةٌ و قُنَابَةٌ و قُنَّابَةٌ: پتے جن میں خوشہ ہوتا ہے۔ و القَنَابَةُ: پتے جن میں خوشہ ہوتا ہے۔ القِنَّبُ و القُنَّبُ (ن): سن جس سے سُتلی بناتے ہیں اور اس سے ریشے تار دھاگے وغیرہ بناتے ہیں۔ القَنِیبُ: گھنا بادل۔ المِقْنَبُ: شکاری کا تھیلا۔ شیر کی ہتھیلی ___ و المِقْنَابُ: شیر کا چنگل، کہا جاتا ہے حلبُ الاَسَدِ فی مِقْنَبِهٖ: شیر کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چنگل اس کی ہتھیلی میں ہے۔
۲۔ قَنَبَ ــِ قَنْبًا الکرمَ انگور کی تکلیف دہ ٹہنیوں کو کاٹ دینا۔ قَنَّبَ الکرمَ انگور کی شاخ تراشی کرنا۔
۳۔ قَنَبَ و تقنبَ و اِقْنَنَبَ الخیلُ گھوڑوں کی جماعت کا دستہ ہونا کہا جاتا ہے۔ قَنَبُوْا و تَقَنَّبُوْا نحوَ العَدُوِّ: جمع ہو کر دشمن کی طرف روانہ ہونے والے گھوڑوں کا دستہ بن گئے۔ اَقْنَبَ: سفر میں دور جانا۔ القَانِبُ: تیز رفتار قاصد۔ وَادٍ قَانِبٌ: وادی جس کا سیلاب دور سے جاری ہو۔ القَنِيبُ: لوگوں کا گروہ۔ القَنَّابُ تیز رفتار قاصد۔ المِقْنَبُ ج مقانب گھوڑوں کی جماعت جو لوٹ ڈالنے کے لئے جمع ہوں۔
۴۔ القَابِنُ بلبلانے والا بھیڑیا۔ القِنابُ کمان کی تانت۔
۵۔ القُنْبُرَةُ سر پر گچھا زائد پر۔ و القُنْبَرَةُ ج قَنَابِرُ (ح) چنڈول نامی ایک قسم کی چڑیا جسے فارسی میں چکاوک کہتے ہیں۔ دجاجة قُنْبُرَانِيَّة (ح) چوٹی والی مرغی۔
۶۔ القُنْبُصُ مونث قُنْبُصَة (ح) سانپ، پستہ قد والا۔
۷۔ القُنَّبِيطُ (ن) گوبھی، عوام اسے قَرَنْبِيط بھی کہتے ہیں۔
۸۔ قَنَبَعَ فی بیته میں چھپنا۔ ــت الشجرةُ غلاف کے اندر پھول یا پھل والا ہونا۔ القُنْبُعُ: درخت کی کلی کا غلاف، خوشہ میں گندم کے دانے کا غلاف۔ القُنْبُعَةُ بمعنی القُنْبُعُ ایک قسم کا بچوں کے لئے کپڑا۔
۹۔ قَنْبَعَ الرجُلُ غصہ کی وجہ سے پھولنا۔
۱۰۔ القُنْبُعُ: پستہ قد خسیس مرد۔ القُنْبُعَةُ بمعنی القُنْبُع، پستہ قد عورت قَنْبَعَةُ الخِنزِيرِ سور کی خرخراہٹ۔
۱۱۔ قَنْبَلَ العدوَّ (ع) دشمن پر توپ کے گولے پھینکنا۔ القَنْبَلُ و القَنْبَلَةُ ج قَنَابِلُ لوگوں یا گھوڑوں کی جماعت۔ القُنْبُلُ و القُنابِلُ: موٹا قوی مرد۔ القُنْبُلَةُ ج قَنَابِلُ: توپ کا گولہ۔
☜ قنب جمع قنوب پھول کٹوری، قُنَّب و قِنَّب سَن، سن کا ریشہ، خیط القنب: سن کا رسہ، ڈوری، طناب، ستلی، قِنَّبی سن کا، سن کے ریشہ کا مِقْنَب جمع مَقَانِب گھڑسواروں کا رسالہ۔ قُنَّار برنموئی درختوں کی تہ دار ریشوں والی چھال سے بنی ہوئی چٹائی یا پٹی۔ قُنْبُر واحد قُنْبُرة جمع قنابر چنڈول، چکاوک، لوا میں سے کوئی ایک (یہ زمزمہ سنج پرندے ہیں) قُنْبُرة جمع قَنابر بم قُنْبُور کوہان، کب، ابو قنبور: کوزہ پشت، کبڑا، کبا۔ قَنَّار جمع قَنابیر مردوں کا لمبا اور آستینوں والا لباس، جو سامنے سے کھلا ہوتا ہے اور پٹی سے بندھا ہوتا ہے۔ قنبل و قنبلة جمع قَنَابِل گھوڑسواروں کا رسالہ، رسالہ، گروہ، جتھا، ٹولی۔ قَنْبَلَ ۔ پر بم مارنا۔ قُنْبُلَة جمع قنابل بم، دستی بم۔ قنبلة حارقة آگ (لگانے والا) بم۔ قنبلة غازية گیس بم۔ قنبلة مائية: گہرائی بم جو آبدوزوں اور دیگر آبی اہداف کو تباہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ قنبلة مُحْرِقة: آگ بم۔ قنبلة مُنْفَجِرَة زبردست دھماکہ خیز بم۔ قنبلة هيدروجنية: ہائڈروجن بم۔(H Bomb)۔ قنبلة اليد. دستی بم۔ طائرة مُقَنبِلة: بمبار طیارہ۔ مُقَنْبِلات بمبار طیارے۔

قنت ۱۔ قَنَتَ ـُ قُنُوتًا اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا، (کہا جاتا ہے۔ قَنَتَ اللّٰهَ و قَنَتَ لِلّٰهِ) ـــ لہ: کے آگے ذلیل ہونا۔ اَقْنَتَ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا۔ اقْتَنَتَ فرمانبردار ہونا۔ القَانِتُ (فا) ج قُنَّتٌ ہمیشہ اطاعت فرمانبرداری میں رہنے والا۔ اِمْرَاۃٌ قَنُوتٌ شوہر کی تابعدار عورت۔
۲۔ قَنَتَ ـــُ قُنُوتًا نماز میں کھڑا ہونا، خاموش ہونا۔ اَقْنَتَ نماز میں قیام طویل کرنا، ہمیشہ حج کرنا، دیر تک جنگ کرنا۔ القَانِتُ ج قُنَّتٌ: نماز پڑھنے والا، کہا جاتا ہے۔ سِقَاءٌ قَنِيتٌ پانی کو روکنے والی مشک جو ٹپکے نہیں۔
۳۔ قَنَتَ ـــُ قَنَاتَةً: کم خوراک ہونا۔ القَنِيتُ: (مذکر مونث) کم خوراک۔
۴۔ اَقْنَتَ دشمن کے لئے بددعاء کرنا۔

قنث: قَنْثَلَ الرجُلُ چلنے میں غبار اڑانا۔

قنج ۱۔ القُنْجُلُ غلام۔

قنح ۱۔ قَنَحَ ــ قَنْحًا العودَ لکڑی کا سرا موڑنا۔ ــ و اَقْنَحَ البابَ دروازہ کو لکڑی سے اٹھانا۔ قَنَّحَ الباب: دروازے کے لئے لمبی ٹیڑھی چابی بنانا۔ القُنَاحُ دروازے کا ارل۔ القُنَّاحَةُ لمبی ٹیڑھی کنجی، لکڑی جس کو دوسری لکڑی کے نیچے ڈال کر حرکت دیں۔
۲۔ قَنَحَ ـ قَنْحًا الشاربُ پینے والے کا سیراب ہو کر سر اٹھانا، سیرابی کے بعد پینے کو ناپسند کرنا۔ تَقَنَّحَ: سیرابی کے بعد پینے کو ناپسند کرنا۔

قنخ. القُنَاخِرُ ج قناخِر بڑے جسم والا۔ اَنْفٌ قُنَاخِرٌ موٹی ناک۔ القِنَّخْرُ بڑے جسم والا، کشادہ نتھنوں اور سخت آواز منہ والا۔ القَنْخَرَةُ و القُنْخُورُ و القُنْخُورَةُ و القِنْخِيرَةُ: بڑی چٹان۔
☜ قُنوت: اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکسار، خلوص، وفاداری، خدا پرستی، خدا ترسی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم۔ قُنْجَة جمع قنجات و قِناج دریائے نیل میں چلنے والی کشتی۔

قند ۱۔ القَنْدُ ج قُنُودٌ شکر (کند کا معرب) القِنْدِيدُ ج قَنادِيدُ شکر، کافور، ایک قسم کی خوشبو جو زعفران سے بنائی جاتی ہے، خوشبو دار شراب، کہا جاتا ہے جاء بالاَمْرِ عَلٰی قَنَادِيدِهٖ وہ معاملہ کو اپنی روش پر لایا۔ القَنْدِيَّةُ (ن) ایک خوشبو دار پودا۔ سَوِيقٌ مُقَنَّدٌ شکر ملا ہوا ستو۔ کلامٌ مُقَنَّدٌ شیریں گفتگو۔ سَوِيقٌ مَقْنُودٌ شکر ملا ہوا ستو۔ رجلٌ مَقْنُودُ الکَلامِ: شیریں کلام مرد۔
۲۔ القُنْدُرُ القُنْدُسُ (ح) اود بلاؤ، سنجاب۔
۳۔ قَنْدَسَ گناہ کے بعد توبہ کرنا۔ ـــ فی الارض سیر و سفر کرنا۔ القُنْدُسُ (ح) بمعنی القُنْدُر (اود بلاؤ، سنجاب)
۴۔ القِنْدَعْلُ بے وقوف۔
۵۔ قَنْدَلَ بڑے سر والا ہونا صفت قُنْدَلٌ و قُنَادِلٌ و قَنْدَوِيلٌ ـــ رَاْسٌ قُنَادِلٌ: بڑا اور مضبوط سر۔ القُنْدُولُ واحد قُنْدُولَه (ن) ایک خاردار درخت۔ القِنْدِيلُ ج قَنَادِيلُ چراغ (لاتینیہ)
۶۔ القَنْدَلَفْتُ گرجا کا خادم (یونانیہ)

قنر ۱۔ اَقْنَرَ چھوٹے مٹکے سے پینا۔ القِنْزُ و الاُقْنِيزُ: چھوٹا مٹکا۔ القَنَزُ قنص میں ایک لغت ہے۔ القانِزُ و القَنَّازُ: شکاری۔
۲۔ القُنْزُعُ و القُنْزُعَةُ و القَنْزَعَةُ و القِنْزِعَةُ: بالوں کا گچھا جو سر پر چھوڑ دیا جائے۔ سر کے گردا گرد بال، پروں کا بقیہ، مرغ کی کلغی۔ القُنْزُعَةُ بمعنی القُنْزُعُ ـــ ج قُنْزُعَاتٌ و قَنَازِعُ: بہت پستہ قد عورت۔ القَنَازِعُ: چھوٹے لوگ، بری کلام۔ بلائیں۔

قنس: ۱۔ اَقْنَسَ الرجُلُ: کمینہ ہوتے ہوئے شریف اصل کی طرف اپنی نسبت کرنا۔ القَنْسُ: اصل۔ القِنْسُ اصل۔ القَنَسُ ج قُنُوسٌ و القَوْنَسُ ج قَوَانِسُ و القَوْنُوسُ: سر کا بالائی حصہ، خود کی چوٹی، راستہ کا درمیان، گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان ابھری ہوئی ہڈی۔ القَيْنَسُ ج قَيَانِسُ (ح): بیل۔
۲۔ قَنْسَرَتْهُ الشدائدُ او السِنُّ سختیوں یا عمر کا کسی کو بوڑھا کرنا۔ تَقَنْسَرَ بوڑھا ہونا اور جھری پڑنا۔ القِنْسَرُ و القِنْسرِيُّ و القِنَّسْرُ بہت بوڑھا عمر رسیدہ۔ القَناسِرُ سخت

قنش: قَنَشَ تَقْنِيشًا ہُ کو کم کرنا۔ قُنِّشَ فی الشیء: میں کمی کیا جانا۔

قنص: ۱۔ قَنَصَ ـِ قَنْصًا الطيرَ: پرندے کا شکار کرنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تقنّص و اقتنص الطیرَ او الظبیَ: پرندے یا ہرن کا شکار کرنا۔ القانصۃ: شکار کرنے والے۔ —— للطیر: ج قوانص (ع ا) پرندے کا پوٹا جس طرح انسان کا معدہ۔ القنص شکار۔ القنّاص شکاری۔ القُنّاص (القانص کی جمع) شکاری لوگ۔ القنیّص مونث قنیّصۃ: شکاری، شکار۔

۲۔ القِنص: اصل۔

۳۔ القُنصُل ج قناصل: پستہ قد شخص، ایک حکومت کا معتمد جو دوسری حکومت میں رہے نائب، سفیر (لاتینیہ) القُنصلیّۃ: نائب سفیر کے رہنے کی جگہ۔

قنط ۱۔ قنَط ـُ قنوطًا ناامید ہونا۔ صفت قنطٌ و قانطٌ و قنوطٌ ـ ۂ کو منع کرنا۔ قنط ـ قنطًا و قنط ـ قنطًا و قناطۃ ناامید ہونا صفت قنطٌ و قانطٌ و قنوطٌ قنّط و اقنط ۂ کو مایوس کرنا۔

۲۔ قنطر قنطرۃً الرجل: بہت مال کا مالک ہونا۔

القنطار ج قناطیر ایک وزن جس کی مقدار مختلف زمانوں میں مختلف رہی۔ سو رطل، مال کثیر، کہا جاتا ہے۔ قناطیرُ مُقنطرۃٌ: بہت زیادہ مال و دولت۔

۳۔ قنطرَ قنطرۃً الشیئَ: کو مضبوط باندھنا ـ الفارسُ: گھوڑے کی پیٹھ سے آگے کی جانب گر پڑنا۔

القنطرۃ (مص) ج قناطر: پل، بلند عمارت۔

۴۔ قنطر قنطرۃً و ... حضر: شہر میں اقامت کرنا۔ ـ علینا: کے پاس

۵۔ القِنطِرُ (ج): —— و القِنطیرُ: مصیبت۔ القنطریُون و القنطوریُون (ن): ایک خاردار پودا جس، بخار کے علاج کے لئے دوائی تیار القنطریون الصغیر (ن) ایک کڑ ور کیڑوں سے نجات کیلئے استعمال بات کی تیاری کیلئے بھی مناسب ہے

قنص ـِ قنصًا و اقتنص الظروف: حالات سے فائدہ اٹھانا —— الفُرصۃَ: موقعہ سے فائدہ اٹھانا۔ قنص: ق چلانا۔ قنص شکار، صید، قنیص: ـ قنّاص جمع قنّاصۃ۔ شکاری، قانص قُنّاص: شکاری۔ قانصۃ جمع قوانص: قانصۃ جمع قانصات: نینک شکن، ـ مقنوص: شکار، صید۔

قُنصُل قناصل: صل، نائب القنصل او وکیل القنصل: ب قونصل، قُنصُل عام: قونصلا ل۔ قُنصُلی قنصلی، سفارتی، وکالۃ، قُنصُلیۃ جمع قنصلیات: قنصل خانہ، قونصل کا دفتر یا عہدہ، قنصل کی فرودگاہ۔ قُنصُلیۃ عامۃ: قونصل خانہ عمومی۔ قُنصلاتو: قونصل خانہ۔

ج قنطر ـ کی محراب بنانا، پر پل بنانا، قنطرۃ جمع قناطر محراب دار پل، تنگ پل، محراب دار چھت، قوسی چھت، محراب۔ مسقف راستہ، محرابی راستہ، قبہ، گنبد، پل، درہ، (جمع) بند پشتہ۔ قنطرۃ موازنۃ نہر سے آبیاری کی باقاعدگی قائم رکھنے والا آلہ۔ القناطر الخیریۃ دریائے نیل کے ڈیلٹا کے مدخل پر بنے ہوئے بند، جو قاہرہ سے 15 میل شمال میں واقع ہیں۔ مُقنطر محراب دار، قوس دار، مسقف (راستہ)، محرابی گزرگاہ، محرابی (عمارت)، قبہ دار، محراب سے ڈھکا ہوا، محرابی شکل میں یا محرابوں سے بنا ہوا۔ قنطر: غیر معمولی دولت مند ہونا۔ قناطیر مُقنطرۃ: غیر معمولی مال، ڈھیروں دولت، قنطاریون: بھکوا۔ قنطرمۃ جمع قنطرمات: اضافی لگام۔

قنع ۱۔ قنَع ـَ قنوعًا: سوال کرنا اور جھک جانا۔ قنِع ـ قنعًا و قناعۃً و قُنعانًا اپنے حصے پر راضی ہونا۔ قنّع ۂ: کو راضی کرنا۔ اقنع بیدیہ فی الصلوٰۃ: ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنا۔ —— الاناءَ: برتن بھرنے کے لئے اسے پانی کے بہاؤ کی طرف دینا کہا جاتا ہے۔ اقنعَ الاناءَ فی النہر: یعنی اس نے بھرنے کے لئے برتن کو نہر میں پانی کے بہاؤ کی طرف کر دیا۔ تقنّع: بتکلف قناعت کرنا۔ اقتنع بالشیئ: پر راضی ہونا۔ القانع (فا) ج قانعون و قُنّع: قناعت کرنے والا، عاجزی سے سوال کرنے والا، قوم کا خادم، قوم کا اجرت پر کام کرنے والا۔ القنِع: جو تقسیم میں مل جائے اس پر راضی ہونے والا۔ القُنعۃ: سوال۔ رجُلٌ قُنعانٌ: تھوڑی سی چیز پر راضی ہونے والا امرد —— شاھدٌ قُنعانٌ: شاہد عدل کہ جسے اور جس کی گواہی کافی سمجھی جائے (مذکر و مونث مفرد جمع سب کے لئے) رجلٌ قُنعانیٌّ جس کی رائے پسند ہو۔ القنوعُ: (مص) تقسیم شدہ پر رضامندی۔ لالچ، سوال، اظہار عاجزی، میلان۔ القنوع ج قُنُعٌ و القنیع ج قُنعاءُ بمعنی قنِعٌ ـ المُقنِع (فا): ذلت کے ساتھ سر کو اوپر اٹھانے والا۔ شاھدٌ مقنعٌ ج مقانع شاہد عدل کہ وہ خود یا اس کی گواہی کافی سمجھی جائے کہا جاتا ہے۔ فلانٌ لنا مقنعٌ: فلاں کے لئے رضامندی ہے جس پر ہم قانع ہیں۔

۲۔ قنَع ـَ قنعات الشاۃُ: بلند تھن والی ہونا یا جس کا تھن درست نہ ہو —— قنوعًا الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ قنِع ـ قنعات الشاۃُ: بلند تھن والی ہونا اقنع رأسَہُ او صوتَہُ: سر یا آواز بلند کرنا۔ ـ الاناءَ: برتن کو جھکانا تا کہ اس میں موجود چیز گر جائے۔ ـ واستقنعت الشاۃُ: بلند تھن والی ہونا۔ القنَع ج قِنعۃ و اقناع: ریت کا گول ٹیلہ۔ القُنعۃ: دیوار میں روشندان۔ القنعۃ: انسانی سر کا ابھرا ہوا حصہ۔ —— من الجبل والسنام: پہاڑ یا کوہان کی چوٹی۔ المُقنع (مفع): وہ شخص جو اپنے سر کو خلقۃً اوپر اٹھائے ہوئے ہو۔

۳۔ قنَع ـَ و قنِع ـ قنعات الابل: اونٹوں کا تھان پر آنا۔ قنع الدیکُ: مرغ کا لڑائی کے وقت گردن کے پروں کو کھڑا کرنا۔ اقنع الابلَ: اونٹوں کو چراگاہ کی طرف لوٹانا اپنی طرف مائل کرنا، ان کے مالکوں کی طرف بڑھانا۔ اقتنعت الابلُ: اونٹوں کا تھان پر واپس آنا۔ —— الرجلُ الابلَ او الغنمَ لما واہا: اونٹوں یا بکریوں کو تھان پر واپس لانا۔ فمٌ مُقنعٌ: ایسا منہ جس کے دانت اندر کی طرف کو مڑے ہوئے ہوں۔

۴۔ قنّع المرأۃ: عورت کو دوپٹہ اڑھانا۔ —— رأسَہُ بالسیف او العصا: کے سر پر لاٹھی یا تلوار سے مارنا۔ ـ ۂ خزیۃً و عارًا: کو رسوائی یا عار میں مبتلا کر دینا، کہا جاتا ہے۔ قنّعہُ الشیبُ خمارۃً: یعنی اس پر بڑھاپا چھا گیا۔ تقنّع: کپڑے میں لپٹنا۔ —— فی السلاح: ہتھیار بند ہونا۔ —— ت المرأۃ بالقناع: دوپٹہ اوڑھنا۔ القِنعُ ج اقناعٌ: ہتھیار۔ القِنعۃ ج قِنع جج قِنعانٌ: دو ٹیلوں کے درمیان ہموار جگہ۔ القِناعُ ج اقناعٌ و اقنِعۃ: دوپٹہ ـ ج قُنُعٌ ہتھیار۔ ـ (ع ا) دل کا غلاف، کہا جاتا ہے۔ کشفَ القناعَ عنِ الشیئ: کنایہ ہے تصریح کرنے سے۔ المِقنع والمِقنعۃ: سر پر ڈالنے کی اوڑھنی۔ المُقنّع (مفع): سر پہ خود رکھنے والا، کپڑے میں لپٹا ہوا، سر چھپانے والا۔

۵۔ القانع ج قانعون و قُنّع: ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا۔ القنع ج قِنعۃ و اقناع: پہاڑ کے قرب میں بقیہ پانی —— والقِنع جمع قِنعۃ و اقناع: کھجور کی لکڑی کی پلیٹ جس میں کھانا رکھا جاتا ہے۔ القِناع جمع اقناع و اقنعۃ: کھانا رکھنے کی تھالی۔ القِنعۃ: باریک ریت۔

۶۔ القِنعاتُ: چہرے اور بدن پر بہت بالوں والا امرد۔

ج قِنع جمع اقناع: ہتھیار، زرہ بکتر، بکتر، قِناع جمع قُنُع ہتھیار، زرہ بکتر، بکتر جمع اقنعۃ: اوڑھنی، دوپٹہ، نقاب، غلاف قلب، پردہ دل، دل کی جھلی، قِناعٌ واقٍ: گیس ماسک، گیس نقاب فی ذلک مَقنعٌ لہٗ: وہ اس کے لئے کافی ہے۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرسکتا ہے۔ قانِع ب: سے مطمئن، پر قانع۔ مُقَنَّع: نقاب اوڑھے ہوئے، نقاب پوش، برقع پوش، پردہ کئے ہوئے۔ مُقْتَنِع: قائل۔ — ب: سے مطمئن، پر قانع

قنف: ۱۔ قَنِفَ ۔ قَنَفًا المکانُ: جگہ کا پھٹی ہوئی مٹی والا ہونا۔ قَنَّفَ ہ بالسیف: کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اِسْتَقْنَفَ المجلسُ: گول ہونا۔ القَنَفُ (مص): کان کا چھوٹا اور سر سے ملا ہوا ہونا۔ القِنَّفُ: سیلاب کا کیچڑ جو زمین پر باقی رہ جائے اور پھٹ جائے۔ الاقنفُ مونث قَنفاءُ ج قُنْفٌ: چھوٹے اور موٹے کان والا۔ القَنفاءُ: انسان کا کان جس کے لئے دائرہ نہ ہو۔ بکری کا موٹا کان۔ القَنِيفُ ج قُنُفٌ: لوگوں کی جماعتیں۔

۲۔ قَنِفَ ۔ قَنَفًا الفرسُ: گھوڑے کا سفید گدی والا ہونا۔ الاَقْنَفُ من الخیل: سفید گدی والا گھوڑا۔ مونث قَنفاءُ ج قُنُفٌ:

۳۔ اَقْنَفَ: ڈھیلے کان والا ہونا۔

۴۔ اَقْنَفَ: بہت لشکر والا ہونا۔ القَنِيفُ: بہت پانی والا بادل۔ جمع قُنُف

۵۔ اَقْنَفَ واِسْتَقْنَفَ: رائے اور تدبیر کا درست ہونا۔

۶۔ القِنَفُ: سر پر تھوڑے بالوں والا۔ القِناف والقُنافُ: بڑی ناک والا۔ القَنِيفُ ج قُنُفٌ: کم خوراک مرد۔

۷۔ القُنفُذُ ج قَنافِذُ مونث قُنفُذَةٌ (ح): سیہی۔

۸۔ القُنفُذُ: درخت جو ریت کے درمیان ہو، ریت کا بلند ڈھیر۔ (ح): چوہا۔ — والقُنفُذ ج قَنافِذ مونث قُنفُذَةٌ (ح): سیہی، کہا جاتا ہے۔ هُوَ قُنفُذُ لَيْلٍ: یعنی وہ چغل خور ہے۔ القَنافِذ: چھوٹے پہاڑ۔

۹۔ قَنفَشَ قَنفَشَةً ہ: کو جلدی جمع کرنا۔ تَقَنفَشَ: سکڑنا۔ القُنافِشُ: پھیلی ہوئی ناک اور سخت داڑھی والا۔ المُقَنفِشُ (فا) فی اللباس: بری ہیئت اور لباس والا۔ کہا جاتا ہے۔ جاءَ مُقَنفِشًا لحیتَهُ: داڑھی کو بری ہیئت میں کئے ہوئے آیا۔

۱۰۔ تَقَنفَعَ تِ القُنفُذَةُ: سیہی کا سمٹنا۔ القُنفُعُ: پستہ قد شخص، کمینہ۔ — والقِنفِعُ (ح): چوہا۔ القُنفُعَةُ (ح): مادہ سیہی، چوہا۔

قنق: ۱۔ القِناق: مسافر کی منزل جہاں وہ اترے (ترکیہ)۔ ایک دن کی مسافر کی طے کردہ منزلیں بھی قناق کہلاتی ہیں۔ (ترکی لفظ)

۲۔ القَنقَرُ (ح): کنگرو (آسٹریلوی عجیب جانور) مادہ کنگرو خطرے کے وقت اپنے بچے کو قدرتی بنی ہوئی تھیلی میں ڈال کر بھاگ جاتی ہے۔ اس کی ایک قسم القنقر الجبّار ہے جو اپنی دم کے غیر معمولی حجم سے ممتاز ہے۔

۳۔ القِنقِنُ: راہ نما۔ واحد مونث قِنقِنَةٌ (ح): ایک قسم کا چوہا —(ح): سمندری سیپی۔ — والقَناقِنُ ج قَناقِنُ: زمین کے نیچے پانی معلوم کر لینے والا انجینئر (دخیل)

○ قُنفُذ البحر یا قنفذ بحری: بحری خار پشت، خار پشت مچھلی۔

○ قَنقَر: کنگرو (آسٹریلیا کے کیسہ دار جانوروں کی ایک قسم)۔

قنم: ۱۔ قَنِمَ ۔ قَنَمًا الجوزُ: اخروٹ کا خراب ہونا صفت قانِمٌ۔ — الفرسُ ونحوُهُ: نمی پہنچنے کے بعد غبار وغیرہ لگ کر میلا کچیلا ہونا۔ — الطعامُ واللحمُ والسقاءُ وغیرُها: خراب ہونا، بدبودار ہونا صفت قَنِمٌ و اَقْنَمُ: اسی سے کہا جاتا ہے۔ يَدِي قَنِمَةٌ مِنَ الزَّيْتِ: میرا ہاتھ تیل سے خراب ہے۔ القَنَمَةُ: تیل وغیرہ کی بدبو۔

۲۔ الاُقْنُومُ ج اَقانِيمُ: شخص، اصل (سریانی)۔

○ قَنِمَ ۔ قَنَمًا: بدبودار ہونا یا ہو جانا۔ قنومة: مقدس مچھلی، اُقْنوم جمع اقانیم: تثلیث میں سے کوئی ایک، بنیادی عنصر، جوہر، مادہ، حقیقی اصول۔

قنو: ۱۔ قَنا ۔ قَنْوًا و قُنْوانًا و قُنُوًّا المالَ: کو جمع کرنا، اپنے لئے حاصل کرنا۔ قَنِيَ يَقْنِيُ وقَنِيَ يَقْنَى قَنْوًا و قَنِيَ واِسْتَقْنَى الحياءَ: کو لازم پکڑنا۔ اَقْنَى ہ اللهُ: کو اللہ کا غنی کرنا، مالدار بنانا۔ — الحياءَ: کو لازم پکڑنا۔ تَقَنَّى: نفقہ سے بچے ہوئے کا ذخیرہ کرنا۔ اِقْتَنَى المالَ: جمع کرنا، اپنے لئے حاصل کرنا۔ — الحياءَ: کو لازم پکڑ۔ القُنْوَةُ و القِنْوَةُ: کمائی، کہا جاتا ہے۔ لَہُ غَنَمٌ قُنْوَةٌ و قِنْوَةٌ: اس کی بکریاں صرف اس کی ہیں۔ القِناوَةُ: بدلہ۔ القِنيُّ والقِنيَةُ: بکری یا اونٹنی جس کو ذخیرہ بنایا جائے۔

۲۔ قَنا ۔ قُنُوًّا اللهُ الشيءَ: کو پیدا کرنا۔ القَناءَ: پیدائش۔

۳۔ قَنا ۔ قُنُوًّا لونُ الشيءِ: کا رنگ گہرا سرخ ہونا۔ اَحْمَرُ قانٍ: بہت گہرا سرخ۔ القَناءُ (ن): گلاب کی قسم کا ایک پودا۔ جنوبی امریکہ والے اور ہندی لوگ اس سے سرخ رنگ بناتے ہیں۔

۴۔ قَنِيَ يَقْنَى قَنًا الانفُ: ناک کے نتھنوں کا تنگ ہونا اور درمیان سے اونچا ہونا صفت اَقْنَى ۔ قَنْيَا القناة: نالی کھودنا۔ القَنا ج قِناءٌ: (جیسے جَبَلٌ کی جمع جِبالٌ) نیزہ۔ القَنا والقِنى والقُنْوُ والقِنْوُ ج اَقْناءٌ و قُنْيانٌ و قِنْيانٌ و قُنْوانٌ و قِنْوانٌ: کھجور کا گچھا۔ القَناةُ ج قِنًى و قِناءٌ و قَنَواتٌ: کھجور کا درخت لگانے کا گڑھا۔ نالی۔ ڈنڈا۔ —— ج قَنًا و قُنِيٌّ و قَنَواتٌ و قَنَياتٌ: نیزہ یا نیزہ کی لکڑی، کہا جاتا ہے فُلانٌ صُلْبُ القَناةِ: فلاں سخت قد والا ہے۔ القَنّاءُ: نالی کھودنے والا۔ — والمُقْنِيُّ: نیزے والا۔ الاَقْنَى من الانوف مونث قَنْواءُ: نتھنے تنگ اور درمیان سے بلند ناک، کہا جاتا ہے۔ هُوَ اَقْنَى الانفِ: وہ تنگ نتھنے اور درمیان سے بلند ناک والا ہے۔

۵۔ اَقْنَى تِ السماءُ: بارش رک جانا۔

۶۔ القَناةُ ج قِنًى و قِناءٌ و قَنَواتٌ (ح): جنگلی گائے۔ القَناءُ و الاَقْناءَةُ من الحائطِ: دیوار کی وہ جانب جس پر سایہ رجوع کرے۔ القُنُوُّ: سیاہی۔ القَنَوانُ: موٹا۔ المَقْناةُ و المَقْنُوَةُ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے

قنی: ۱۔ قَنَى يَقْنِي قَنْيًا و قِنْيانًا و قُنْيانًا المالَ: کی کمائی کرنا۔ الحياءَ: حیاء دار ہونا۔ قَنَّى اللهُ فلانًا: کو راضی کر دینا۔ قانَى مُقاناةً الشيءُ: ہمیشہ رہنا، آپ کہیں گے قانَى لِيَ فِي الصَّيْفِ ظِلٌّ باردٌ: گرمی کے موسم میں میرے لئے مستقل ٹھنڈا سایہ میسر رہا۔ — الشيءُ فلانًا: کے موافق ہونا، تم کہو گے۔ ما يُقانِيني هذا الشيءُ: یعنی یہ چیز میرے موافق نہیں ہے۔ اَقْنَى اِقْناءً اللهُ فلانًا: کو غنی کرنا اور خوش کرنا۔ — الصيدُ فلانًا ولفلانٍ: شکار کا کی زد میں آ جانا، کے قریب آ جانا۔ القُنْيَةُ والقِنْيَةُ ج قِنًى: کمائی، کہا جاتا ہے لَہُ غَنَمٌ قُنْيَةٌ و قِنْيَةٌ: اس کی بکریاں صرف اسی کی ہیں۔ اَرْضٌ مَقْناةٌ: ہر شخص کے موافق آب و ہوا والی زمین۔

۲۔ قانَى مُقاناةً الشيءَ: کو ملانا۔

قہ: قَهْقَهَ قَهْقَهَةً: کھلکھلا کر ہنسنا۔

قہب: ۱۔ قَهِبَ ۔ قَهَبًا: بھورے رنگ کا ہونا صفت قَهْبٌ و اَقْهَبُ۔ القُهْبَةُ: بھورا رنگ۔ القُهابُ والقُهابِيُّ: سفید۔

۲۔ اَقْهَبَ عن الطعامِ: کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا اور اس کی خواہش نہ کرنا۔

۳۔ القَهْبُ (ح): بڑا اونٹ۔ الاَقْهَبانُ (ح): ہاتھی اور بھینس۔

قہد: قَهِدَ ۔ قَهَدًا فی مشيه: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔ القَهْدُ ج قِهادٌ: سفید، تیرہ گول، صاف رنگ کا — (ح): ایک قسم کی بکری۔ — (ح): بچھیا، گائے کا بچہ۔ — (ن): نرگس کی کلی جبکہ کھلی ہوئی نہ ہو۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ۘ قَناة جمع اَقْنِيَة و قَنَوات: نہر، چشمہ، کشتی یا جہاز رانی کے قابل گزرگاہ، قَناة العَلَم: وہ بانس یا ڈنڈا جس کے ساتھ جھنڈا لہراتا ہے۔ قَنَايَة جمع قنايات: چھوٹا چشمہ، ندی، نالہ۔ قُنَيَّة: پچکاری، جراحی نلکی۔ اَقْنَى: جھکا ہوا، موڑا ہوا، ٹیڑھا، موڑ والا، گھنڈی والا، بک والا۔ اِقْتِناء: خریدنا، حصول، اکتساب قانٍ جمع قانِيَة: قابض، مالک۔ مُقْتَنًى جمع مُقْتَنَيَات: اکتساب کردہ یا حاصل کردہ چیز، حصول، اکتساب۔

قہر ۱۔ قَہَرَ ــَـ قَہْرًا ہٗ: پر غالب ہونا۔ قُہِرَ اللحمُ: گوشت کو آگ کا جلانا جس کی بنا پر اس سے پانی نکلنا قَاہَرَہٗ: پر غالب آنا۔ اَقْہَرَہٗ: کو مغلوب پانا۔ ــــ الرجلُ: ذلت اور قہر کی طرف معاملہ والا ہونا، مقہور دوستوں کا ساتھی ہونا۔ القاہِرَۃُ: القاہِرُ کا مونث۔ القُہْرَۃُ: مجبوری کہا جاتا ہے۔ ہُوَ قُہْرَۃٌ لِلنَّاسِ: وہ ہر ایک کا مقہور ہے۔ القَہَّارُ: اسم مبالغہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔

۲۔ القَاہِرُ ج قَوَاہِرُ: بلند، کہا جاتا ہے جَبَلٌ قَاہِرٌ وجبالٌ قَوَاہِرُ۔ القَاہِرَۃُ: سرسینہ کندھے اور گردن کے درمیان کا گوشت، ہر چیز کا سابق۔ القُہَرَۃُ ج قُہَرَاتٌ من النساء: بہت شریر عورت۔

۳۔ القَہْرَمُ: پستہ قد مرد۔ القَہْرَمَانُ ج قَہَارِمَۃُ: وکیل، آمد وخرچ کا منتظم۔ القَہْرَمَۃُ: قہرمان کا وظیفہ۔ اور فعل

۴۔ قَہْقَرَ قَہْقَرَۃً و تَقَہْقَرَ: پچھلے پاؤں لوٹنا، کہا جاتا ہے۔ ہُوَ یُقَہْقِرُ فِی مِشْیَتِہٖ: جبکہ پچھلے پاؤں چلے القَہْقَرٰی: پچھلے پاؤں لوٹنا، کہا جاتا ہے۔ رَجَعَ القَہْقَرٰی: وہ پچھلے پاؤں لوٹا۔ القَہْقُورُ: عمارت جسے بچے پتھروں سے بناتے ہیں اور عوام قَعْقُور کہتے ہیں۔

قہز: قَہَزَ ــَـ قَہْزًا: کودنا۔ القِہْزُ: ریشم۔

قہل: ۱۔ قَہِلَ ــَـ قَہَلًا و قُہُولًا جلدُہٗ: کی کھال خشک ہونا۔ قَہَلَ ــَـ قَہْلًا جلدُہٗ: کی کھال خشک ہونا ــ الرجلُ: جسم کو آلودہ رکھنا، پاک صاف نہ رکھنا۔ اَقْہَلَ الرجلُ: اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھنا۔ تَقَہَّلَ: جسم آلودہ رکھنا کپڑے پاک صاف نہ رکھنا ــ جلدُہٗ: کی کھال خشک ہونا ــ الرجلُ: بدحال ہونا، پانی سے نا آشنا ہونا گندا ہونا۔

۲۔ قَہَلَ ــَـ قَہْلًا الرجلُ: ناشکری کرنا، کفران نعمت کرنا ــ فلانًا: کی بری تعریف کرنا۔

۳۔ اَقْہَلَ الرجلُ: لایعنی امور میں مشغول ہونا۔

۴۔ تَقَہَّلَ: آہستہ چال چلنا، اپنی حاجت کا گلہ کرنا ــ صوتُہٗ: کی آواز کا نرم وضعیف ہونا۔ اِنْقَہَلَ: کمزور ہونا اور گر پڑنا۔

۵۔ القَیْہَلُ و القَیْہَلَۃُ: چہرہ پیکر، کہا جاتا ہے۔ حَیَّا اللّٰہُ ہٰذِہِ القَیْہَلَۃَ: اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو باقی رکھے۔

قہم: ۱۔ قَہِمَ ــَـ قَہَمًا الرجلُ: قلیل الاشتہاء ہونا صفت قَہِمٌ۔ اَقْہَمَ عن الطعام: کھانے کی خواہش نہ رکھنا ــ الیہ: کی خواہش کرنا ــ عن الشیئ: کو ناپسند کرنا۔ ــ عن الشراب والماء: کو چھوڑنا ــ ت الابلُ عن الماء: اونٹوں کا پانی پر نہ جانا۔

۲۔ اَقْہَمَ ت السماءُ: آسمان کا بادل سے صاف ہو جانا۔

۳۔ قَہْمَزَ قَہْمَزَۃً: کودنا۔ القَہْمَزٰی: گھوڑے کا پویہ دوڑنا، جلد بازی، نشاط۔ القَہْمَزُ: پستہ قد کا۔ القَہْمَزَۃُ (مص) من النساء: بہت پستہ قد عورت۔

ۘ قَہَرَہٗ علی: کو پر مجبور کرنا، پر کے لئے دباؤ ڈالنا۔ قَہْرًا: زبردستی، لازمًا، ناچار، لاچار۔ قَہْرِی: مجبور کن، لازمی، توثیقی، جبری۔ ابتسامۃ قہریۃ: جبری مسکراہٹ۔ سببٌ قہریٌّ: مجبور کن وجہ۔ قاہِر: زوردار، قوی، بہت زوردار، ناقابل مزاحمت، غالب، فاتح، القاہر: مریخ (سیارہ)۔ مصر القاہرۃ یا القاہرہ: قاہرہ (شہر) قاہِرِیّ: قاہری، قاہرہ کا، جمع قاہریون قاہرہ کے لوگ۔

ۘ قَہْرَمان جمع قہارمہ: ہوائی جہاز میں مسافروں کا نگران خادم، خانساماں، گھر کا منتظم۔ قہرمانۃ: گھر کی منتظمہ۔

ۘ قَہْقَرَ: پیچھے جانا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، پیچھے رہنا، پستی کی طرف جانا، زوال پذیر ہونا، تَقَہْقَرَ: بمعنی بالا۔ قَہْقَرۃ: پیچھے کی طرف حرکت، پیچھے ہٹنا، معاشی انحفاض، پسپائی، رجعت قہقری، پستی، اوٹ۔ قَہْقَرَی: بمعنی بالا۔ عَادَ القَہْقَرَی: پسپا ہونا۔ تَقَہْقُر: پیچھے ہٹنا، دست کشی، تنزل، انحطاط، پسپائی۔

ۘ قَہْقَہَ: قہقہہ مارنا، قہقہے مار کر ہنسنا، قَہْقَہۃ: قہقہہ، فرمًا: قہقہہ۔

قہو ۱۔ اَقْہٰی: قہوہ پینے کی مداوت کرنا۔ القَہْوَۃُ: شراب، بیان کیا جاتا ہے کہ شراب کو قہوہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے پینے والے کی اشتہاء کم ہو جاتی ہے، خالص دودھ، پوری شکم سیری، بو (کہا جاتا ہے اِنَّ فُلَانًا طَیِّبُ قَہْوَۃِ الفَمِ: یعنی فلاں کے منہ کی بو بڑی اچھی ہے)۔ مولدین درخت بن کر بھی قہوہ کہتے ہیں اور اس درخت سے پیسے کی جو چیز بنائی جاتی ہے اسے بھی قہوہ کہتے ہیں۔ ــ قہوات (جس جگہ کثرت سے قہوہ پیا جائے اس کو بھی مجازًا قہوہ کہتے ہیں۔) المَقْہٰی ج مَقَاہٍ: ٹی سٹال، قہوہ خانہ۔

۲۔ القُہْوَانُ (ح): عمر رسیدہ موٹے سینگوں والا بکرا۔

۳۔ قَہْوَسَ: تیز چلنا دوڑنا۔ ــ الرجلُ: خوف سے دوڑنا۔ تَقَہْوَسَ: دوڑنا، جھک کر مضطربانہ چال چلنا۔ کبڑا ہونا۔

قہی: قَہِیَ ــَـ قَہًا عن الطعام: کی اشتہا کم ہونا ــ عن الشراب: کو چھوڑنا۔ اَقْہٰی اِقْہَاءً عن الطعام: کی اشتہاء کم ہونا۔ اِقْتَہٰی عن الطعام: بغیر مرض کے کھانے کی خواہش نہ ہونا۔ القَاہِی: تیز خاطر۔ عَیْشٌ قَاہٍ: خوش عیشی۔

ۘ قَہْوَۃ: قہوہ، کافی Coffee قہوۃ و قَہَاوِی: کیفے، قہوہ خانہ۔ قہوۃ سادہ: چینی کے بغیر کافی قَہْوَاتی و قَہْوَاتی جمع قَہَاوِیۃ: قہوہ خانے کا مالک قَہْوَجی: قہوہ خانے کا مالک، کافی بنانے والا۔ مَقْہًی و مَقْہَاۃ جمع مَقَاہٍ: قہوہ خانہ، کیفے۔ مَقْہَایَۃ: قہوہ خانہ، کیفے۔

ۘ قَہِیَ من الطعام و اَقْہٰی من الطعام: کم بھوک لگنا، کم اشتہاء ہونا۔ قاہٍ: اشیاء خوردنی مہیا کیا ہوا۔

قوب: ۱۔ قَابَ ــُـ قَوْبًا الارضَ: زمین کو گولائی میں کھودنا۔ قَوَّبَ الارضَ: زمین کو گولائی میں کھودنا، میں روند کر نشان چھوڑنا۔ اِنْقَابَ ت الارضُ: زمین کا کھدنا۔

۲۔ قَابَ ــُـ قَوْبًا الرجلَ: کے قریب ہونا۔ القَابُ: مقدار، کہا جاتا ہے۔ ہُوَ عَلٰی قَابِ قَوْسَیْنِ: کنایہ ہے بہت قریب ہونے سے، کمان کے قبضہ اور گوشہ کمان کے درمیان کا فاصلہ۔ القِیْبُ: مقدار کہا جاتا ہے۔ بَیْنَہُمَا قِیْبُ قَوْسٍ۔

۳۔ قَابَ ــُـ قَوْبًا الطائرُ: پرندے کا اپنے انڈے کو توڑنا۔ ــ الرجلُ: بھاگنا۔ تَقَوَّبَ و اِنْقَابَ ت البیضۃُ: انڈے کا پھٹنا۔ القَابَۃُ و القَائِبَۃُ (ح): چوزہ، انڈا، اور مثال میں ہے تَخَلَّصَتْ قَائِبَۃٌ او قَابَۃٌ مِنْ قُوبٍ: یعنی انڈا چوزے ــ جدا ہو گیا، یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کوئی اپنے ساتھی سے جدا ہو جائے۔ القُوْبُ ج اَقْوَابٌ (ح): چوزہ۔ القُوبُ: انڈے کا چھلکا۔ القُوبِیُّ: چوزے کھانے کا حریص۔

۴۔ قَوَّبَ الشیئَ: کو اکھیڑنا۔ تَقَوَّبَ: جڑ سے اکھڑنا ــ وانْقَابَ المکانُ: جگہ کو درخت اور گھاس سے صاف کیا جانا، کہا جاتا ہے تَقَوَّبَ مِنْ رَاْسِہٖ مَوَاضِعُ: یعنی اس کے سر میں چند جگہیں چھل گئیں۔ اُمُّ قُوبٍ: مصیبت القُوَبَاءُ و القُوْبَاءُ ج قُوَبٌ و القُوْبَۃُ و القُوَبَۃُ: (طب) داد کی بیماری، عوام اسے حزاز کہتے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہیں۔ المُتَفَوِّتُ چھلا ہوا، داد کھجلی کی وجہ سے کھال چھلا ہوا اور بال منڈا مرد۔ — من الحیّات کینچلی اترا ہوا سانپ۔

۵۔ اِقْتَابَ الشیئَ کو پسند کرنا۔

۶۔ القُوبَۃَ گھر پر مقیم، کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ بِـلـیءُ قُوبَۃٌ: یعنی وہ تو گھر ہی رہتا ہے۔

ف ت ُقو با تزت کھودنا ۔ ےکو کھودنا، کریدنا، (بھٹ) بنانا، کو کھودنا، کو کھود کر بنانا۔ تَقَوَّبَ انڈے کا نوٹ یا پھٹ کر کھلنا۔ قــاب کمان کے وسط اور سرے کے درمیان) تھوڑا فاصلہ۔ علی قاب قوسین: بالکل قریب سر پر کھڑا۔ علی قاب لَمْحَۃٍ: ابھی، لحہ بھر میں۔ قُوب جمع اَقْوَاب چینگا، چوزہ۔ قُوباء و قُوَبَــاء و قُوْبَۃ و قُوبَۃ جمع قُوَب: کوئی سی جلدی بیماری tetter جیسے داد، کھجلی وغیرہ۔

قوت ۱۔ قــاتَ یـقُوتُ قُوتًا و قِیَاتَۃً الرجُلَ کو روزی دینا، گزارہ دینا، خوراک دینا۔ اَقـاتَ اِقَاتَۃً فلانًا و علی فلان: کو گزارہ دینا، پر قدرت رکھنا، کی حفاظت کرنا۔ تَـقَـوَّتَ بالشیئ کو کھانا۔ اِقْتَـاتَ اِقْتِیَـاتًا بالشیئ: کو کھانا۔ — الشیئَ کو خوراک بنانا، کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ یَقْتَاتُ الْکَلَامَ فلاں کم گفتگو کرتا ہے۔ اِسْتَقَـاتَ اِسْتِقَـاتَۃً فلانـًا سے گزارہ طلب کرنا۔ القَائِتُ روزی۔ — من العیش: کفایت، کہا جاتا ہے۔ هُوَ فِـیْ قَائِتٍ مِنَ العَیْشِ یعنی کفایت میں ہے۔ الـقُـوْتُ ج اَقْوَاتُ خوراک۔ الـقُـوَاتُ والقِیْتُ والقِیْتَۃُ: خوراک گزارہ کے لائق۔ المُقِیْتُ (ثا) قدرت رکھنے والا، نگہبان، گواہ۔

۲۔ القَات (ن) بوٹی جس کے نشہ آور پتے چبائے جاتے ہیں۔

قَاتُ الرُّعیان: کاہو، سلاد۔ مَوَادُّ القُوت: اشیائے خوراک۔ نَقُوْتُ غذا المُقِیت: کھلانے والا، پروردگار (اللہ تعالیٰ کا ایک نام)

فوح ۱۔ فَاحَ ـ فَوْحًا و تَفَوَّحَ الجرحُ زخم سوجنا۔

۲۔ فَـاحَ ـ فَوْحًا و فَوَّحَ البیتَ گھر میں جھاڑو دینا۔ الفاحۃ ج فُوحٌ: صحن، کہا جاتا ہے۔ دَخَلْتُ فَاحَۃَ الدَّارِ میں گھر کے صحن میں داخل ہوا۔

۳۔ اَفَاحَ اِفَاحَۃً الرجُلَ سوال کے بعد منع کرنے کا ارادہ کرنا۔

فـوح فَاحَ یَفُوحُ فَوْحًا جوفُہٗ ... کی وجہ سے کسی کا پیٹ خراب ہونا۔ لَیْلَۃٌ فَائِحَۃٌ ... رات۔

۔ قَاحَ ـ قَوْحًا (زخم) خراب ہو جانا، زخم میں پیپ پڑ جانا، زخم پڑنا۔ تَقَوَّحَ بمعنی قَاحَ۔ قَاوَحَ: لڑنا، جھگڑنا، جھگڑا کرنا۔

قود ۱۔ قَـادَ یَـقُـوْدُ قَـوْدًا و قِیَادَۃً و قِیَادًا و مَقَادَۃً و قَیْدُوْدَۃً الدابَّۃَ چوپائے کو آگے سے کھینچنا۔ — قِیَادَۃَ الجیشِ سالارِ جیش ہونا، — القَاتِلَ الی موضع القتلِ قاتل کو قصاص کے لئے لے جانا۔ قَوَّدَ تَقْوِیْدًا و تَـقْـوَادًا الدابَّۃَ چوپائے کو آگے سے کھینچنا۔ قَاوَدَ مُـقَاوَدَۃً ہٗ: کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اَقَادَ آگے بڑھنا۔ الغیثُ: بارش کا پھیلنا۔ — ہٗ خیلا کو گھوڑے آگے سے کھینچنے کے لئے دینا۔ — القَاتِلَ بالقَتیل مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دینا۔ تقاوَدَ الرجُلان دو مردوں کا ایک ساتھ بھاگنا، جیسے دونوں ایک دوسرے کو ہانک رہے ہوں۔ المکانُ جگہ کا ہموار ہونا۔ اِنْـقَادَ اِنْقِیَادًا: کھنچنا — لفلان: کا تابعدار ہونا۔ — الـطریقُ الٰی کذا: تک واضح ہونا۔ اِقْتَادَ اِقْتِیَادًا: کھینچنا۔ — الدابۃَ کو کھینچنا۔ کہا جاتا ہے۔ اِقْتَادَ الدَّابَۃَ فَـاقْتَـادَتْ اس نے جانور کو کھینچا پس وہ کھنچ گیا (لازم و متعدی) اِسْتَـقَادَ ذلیل ہونا، فروتنی کرنا۔ — لہٗ کا فرمانبردار ہونا۔ — الامیرَ سے مقتول کا قصاص لینے کی درخواست کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِسْتَقَادَ الاَمِیْرَ مِنَ الـقَـاتِـلِ فَـاَقَادَہٗ منه: اس نے امیر سے قاتل سے قصاص لینے کی استدعا کی تو امیر نے قصاص لے لیا۔ الـقَـائِـدُ ج قُـوَّادٌ و قُوَّدٌ و قَادَۃٌ جج قَادَاتٌ (اع): کمانڈر دستہ، سالار فوج۔ قــائـد الـموقع علاقائی فوج کا سالار القَائِدَۃُ القائد کی مونث القَوْدُ (مص): کوتل گھوڑے، کہا جاتا ہے: مَـرَّ بِـنَـا قَوْدٌ: ہمارے پاس سے کوتل گھوڑے گزرے۔ القَوَدُ قصاص، مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا۔ الـقَـوَّادُ: اسم مبالغہ۔ فَـرَسٌ قَـؤُوْدٌ و قَـوُوْدٌ و قَیِّدٌ و قَیْدٌ: سدھایا ہوا تابعدار گھوڑا۔ الـقِـیَـادُ: جانور کو کھینچنے کی رسی، کہا جاتا ہے فُلَانٌ سَلِسُ القِیَادِ یعنی فلاں تیری مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اَعْـطٰـی فُلَانٌ القِیَـادَ: فلاں خوشی سے فرماں بردار ہو گیا۔ بعض کے نزدیک مجبوراً القِیَادَۃُ: قائد کا پیشہ۔ وہ جگہ جہاں قائد رہتا ہو۔ القیادۃ الـعـامۃ: سپریم کمانڈ، سپریم کمانڈر کا مرکز الاَقْـوَدُ: مطیع و فرمانبردار گھوڑا، مضبوط گردن والا۔ بخیل، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے والا، اور باز نہ رہنے والا، کہا جاتا ہے۔ اَعْطَاہُ مَقَادَتَہٗ: یعنی وہ اس کا فرمانبردار ہو گیا۔ الـمِـقْـوَدُ ج مَقَاوِدُ: جانور کو کھینچنے کی رسی۔ الـمَقُوْدُ (مفع): اصل کا لحاظ کرتے ہوئے اسے مَقْوُوْدٌ بھی کہا جاتا ہے۔ طَرِیْقٌ مُنْقَادٌ: سیدھا راستہ۔

۲۔ قَـوِدَ یَـقْـوَدُ قَـوَدًا الفرسُ وغیرہٗ: لمبی پیٹھ اور گردن والا ہونا صفت اَقْوَدُ مونث قَوْدَاءُ جمع قُوْد۔ القائد جمع قُـوَّادٌ و قُـوَّدٌ و قَادَۃٌ و جج قَادَاتٌ: مستطیل زمین یا پہاڑ، پہاڑ کی چوٹی۔ الـقَـائِدَۃُ زمین پر پھیلا ہوا ٹیلہ۔ القَوَدُ مصدر (قَوِد) الاَقْـوَدُ و المُقَوَّدُ: لمبا پہاڑ۔

۳۔ قِیْـدَ الـدقیـقُ آٹے کا اکٹھا ہونا، گوندھا جانا اور پکایا جانا۔

۴۔ الـقَادُ و القِیْدُ مقدار اور مسافت کہا جاتا ہے بَیْنَهُمَا قَـادُ قَـوْسٍ او قِیْدُ قَوْسٍ: یعنی دونوں کے درمیان کمان کی مقدار ہے۔

قَـادَ ـُ قودًا و قِیادًا و قِیادَۃً و مَقادَۃً ہ (گاڑی) چلانا، (ہوائی جہاز) چلانا، —: دلالی کرنا، بھڑوا ہونا۔ اَقَـادَہٗ سے ترکی بہ ترکی جواب دلوانا۔ اِسْتَـقَادَ: بدلہ لینا۔ قَـوْد قیادت، رہنمائی، رہبری۔ بھڑواپن، دلالی۔ قَـوَد: انتقام۔ قَـوَّاد بھڑوا، دلال۔ قَـؤود: مطیع، اطاعت شعار، قابو میں آنے والا، اطاعت پذیر، فرمان پذیر، سدھایا ہوا (گھوڑا) اَقْـوَد: مطیع، اطاعت پذیر، اطاعت شعار، قابو میں آنے والا، فرمان پذیر۔ قِیَـاد: قیادت، رہنمائی، رسا (گھوڑے کی گردن میں ڈالا ہوا) سَلِسُ القیاد: مطیع، اطاعت شعار، قابو میں آجانے والا، اطاعت پذیر، فرمان پذیر، اثر پذیر، صَعْبُ الـقِیـاد: خودسر، سرکش، بے لگام، منہ زور، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا۔ قِیادۃ قیادت رہنمائی، ڈرائیوری، چلانا، (گاڑی) چلانا، کمانڈ، الـقیادۃ العُلْیا (او العامۃ): سپریم کمانڈ۔ عَـجَلۃُ القیادۃ (گاڑی) کا رخ ٹھیک رکھنے کا پہیہ Steering wheel مِـقْـوَد جمع مَـقَاوِد: جانور کو کھینچنے کی رسی، سٹیرنگ وہیل، قائد جمع قُـوَّاد و قُوَّد و قادۃ و قادات: رہنما، لیڈر، ڈائریکٹر، منیجر، سربراہ، ہیڈ، چیف، کمانڈر، کمانڈینٹ، اعلیٰ افسر، سینئر آفیسر، جہاز کا رخ ٹھیک رکھنے والا، سکّان گیر، پتوار چلانے والا، جہاز چلانے والا، جہاز ران۔ قـائـد الجیش: جنرل، آرمی کمانڈر، قائد عام، سپریم کمانڈر۔ القائد الاعلی: کمانڈران چیف (مصری بحریہ کا) قائد عـام الاساطیل الجوّیۃ: ہوائی فوج کا لفٹیننٹ جنرل، قـائد الاسـاطیل الجوّیۃ: ہوائی فوج کا میجر جنرل، قـائـد اسـطول جوّی: ہوائی فوج کا کرنل۔ قـائـد لـواء جـوّی: ہوائی فوج کا لیفٹیننٹ کرنل۔ قـائـد فِرْقَۃ جَوِّیَۃ: ہوائی فوج کا میجر۔ قائد جناح: ونگ کمانڈر۔ قائد سرب ہوائی فوج کا کیپٹن قادۃ الفِکر: سرکردہ مفکرین۔

قور ۱۔ قَارَ یَقُوْرُ قَوْرًا پنجوں کے بل چلنا۔ — الصیدَ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کوفریب دے کر شکار کرنا۔ اِقتَارَ اِقتِیَارًا حدیثھم: کی کھود کرید کرنا۔

۲۔ قَارَ یَقُورُ قَوْرًا فلانًا: کی آنکھ پھوڑنا ـــ قَوْرًا و قَوَّرَ تَقوِیرًا و اِقتَارَ اِقتِیَارًا و اِقتَوَرَ اِقتِوَارًا الشیئَ: کو گول کاٹنا۔ قَوِرَ یَقوَرُ قَوَرًا الرجُلُ: کانا ہونا۔ تَقَوَّرَ السحابُ: بادلوں کا علیحدہ علیحدہ گول ٹکڑے ہونا ـــ اللیلُ: اکثر رات گزر جانا۔ اِنقَارَ اِنقِیَارًا: واقع ہونا ـــ ت البئرُ: کنویں کا گر جانا ـــ بہ: مائل ہونا۔ اِقوَرَّ اِقوِرَارًا ت الارضُ: کی روئیدگی کا جاتا رہنا۔ القَارُ: اونٹوں کا بڑا گلہ۔ القَارَۃُ ج قَارٌ و قَارَاتٌ و قُوْرٌ و قِیرَانٌ: پہاڑوں سے علیحدہ چھوٹا پہاڑ۔ القُوَارَۃُ: کپڑے وغیرہ کا گول کٹا ہوا حصہ کسی چیز کے کٹے ہوئے اطراف، جس سے کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ الاَقوَرُ: مونث قَوْرَاءُ: کشادہ۔ الاقوریاتُ و الاقورُونَ: بڑی بڑی مصیبتیں۔

۳۔ تَقَوَّرَتِ الحیَّۃُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ اِقوَرَّ اِقوِرَارًا الجلدُ: میں دبلے پن کیوجہ سے جھری پڑنا، نرم ہونا ـــ الفرسُ: گھوڑے کا دبلا ہونا ـــ فلانٌ: موٹا ہونا۔ المُقوَرُّ: دبلا گھوڑا۔

۴۔ اِقتَارَ اِقتِیَارًا الرجُلُ محتاج ہونا۔

۵۔ القَارُ: سیاہ رنگ کا ایک روغن جس کو کشتی وغیرہ پر ملتے ہیں واحد مونث قَارَۃٌ (ن): ایک کڑوا درخت۔ القَارَۃُ ج قَارٌ و قَارَاتٌ و قُوْرٌ و قِیرَانٌ (ح): مادہ ریچھ۔ القُوْرُ: نئی روئی، روئی کی رسی۔ المُقَوَّرُ: تارکول کیا ہوا، تارکول ملا ہوا۔

قوز: قَوَّزَ تَقوِیزًا النبتُ: نباتات کا بکثرت ہونا۔ تَقَوَّزَ البیتُ: گھر کا منہدم ہونا ـــ الوعلُ: پہاڑی بکرے کا دوڑنا۔ اِقتَازَ النمرُ: کو چیتے کا پھاڑ کھانا۔

○ قَوَّرَ ہ: میں گول سراخ کرنا، میں چھینی سے نالیاں یا سوراخ کھودنا، کو گول شکل میں کاٹنا۔ تَقَوَّرَ: سانپ کا کنڈلی مار کر بیٹھنا۔ اِقتَارَ و اِقتَوَرَ: بمعنی قَوَّرَ قَار: رال، قیر، کولتار، لک قَارَۃ جمع قَارات و قُور و قِیران: پہاڑی، مِقوَرَۃ: گول چھینی، تَقوِیر: سوراخ کرنا، گول شکل میں کاٹنا، نالیاں یا سوراخ کھودنا تَقوِیرَۃ: قمیص کا گلا۔ مُقَوَّر: گول شکل میں کاٹا ہوا، گول سراخ کیا ہوا، نالیاں یا سوراخ کھودا ہوا، کفچہ سے نکالا ہوا، بسولی سے چھیلا ہوا، گردن اور شانوں پر کھلی ہوئی پوشاک قَوْرَمَۃ: قورمہ۔

قوس: ۱۔ قَاسَ یَقُوسُ قَوْسًا الشیئَ علیٰ غیرہ وبہ: کا نمونہ پر اندازہ کرنا ـــ القومَ: پر سابق ہونا۔ قاوَسَنی فقُسْتُہٗ: اس نے کمان کے عمدہ ہونے میں مجھ سے مقابلہ کیا تو میں غالب رہا۔ اِقتَاسَ الشیئَ: کا اندازہ کرنا ـــ بفلان: کی اقتداء کرنا۔ القَوْسُ: ذراع۔ ہاتھ (پیمانہ)۔ القَیَّاسُ و المُقَاوِسُ: گھوڑوں کو چلانے والا۔ المِقوَسُ ج مَقَاوِسُ: میدان، رسی کہ جس سے گھوڑ دوڑ میں گھوڑوں کی صف بندی کی جاتی ہے، وہ مقام جہاں سے گھوڑ دوڑ میں گھوڑے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔

۲۔ قَوِسَ ـــ قَوَسًا و اِستَقوَسَ الرجُلُ: خمیدہ پشت ہونا۔ قَوَّسَ الرجلُ: خمیدہ پشت ہونا ـــ ت السحابۃُ: بارش ہونا۔ البارودۃَ و نحوھا: بندوق وغیرہ چلانا (عامیہ)۔ ہٗ بالبارودۃ: پر بندوق چلانا۔ تَقَوَّسَ: مڑا ہوا ہونا، کمان کی مانند ہونا۔ قَوَّسَہٗ: کمان اٹھانا۔ القَوْسُ ج قِسِیٌّ و قُسِیٌّ و اَقوَاسٌ و قِیَاسٌ و اَقوُسٌ و اَقیَاسٌ: تصغیر قُوَیْسٌ و قُوَیْسَۃٌ: کمان، مونث ہے اور کبھی مذکر بھی استعمال کرتے ہیں اور نسبت کے لئے قُسَوِیٌّ: اور متعلقہ چیز کی طرف اضافت کرکے کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً: قَوْسُ نَدَفٍ و قَوْسُ نَبلٍ وغیرہ۔ ہر منحنی چیز جو کمان کی طرح ہو۔ قَوْسُ قُزَحٍ (فلك): دھنک، ایک آسمانی برج۔ قَوْسُ الرَّجُلِ: جھکی ہوئی پیٹھ۔ قَوْسُ خَطٍّ مُنحنٍ کدائرۃٍ: مڑا ہوا خط دائرہ کی مانند۔ القَوْسُ: شکاری کا جھونپڑا۔ القَوَّاسُ ج قَوَّاسَۃٌ: کمان والا، کمان بنانے والا، کمان چلانے والا، بندوق سے شکار کرنے والا قونصل اور پادری وغیرہ کا خادم القُوَیْسُ و القُوَیْسَۃُ (القوس کی تصغیر)۔ اسی سے مثال ہے۔ ھُوَمِنْ خَیْرِ قُوَیْسٍ سَھْمًا: یہ مثال اس کے لئے پیش کی جاتی ہے جو آپ کی مخالفت سے باز آکر آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ القَیَّاسُ: کمان درست کرنے والا۔ الاَقوَسُ: جھکی ہوئی پشت والا، کبڑا۔ المِقوَسُ ج مَقَاوِسُ: کمان رکھنے کا تھیلہ۔

۳۔ تَقَوَّسَ ہٗ الشیبُ: بڑھاپے کا بالوں کو کھچڑی کرنا۔

۴۔ القُوْسُ: راہب کا معبد خانہ۔ القَوْسُ و القُوَیْسُ من الایام: سخت اور لمبا دن۔ الاَقوَسُ: بلند ریت کا ڈھیر ـــ من الایام: سخت اور لمبا دن ـــ لَیْلٌ اَقوَسُ: بہت تاریک رات۔ بلدٌ اَقوَسُ: دور کا شہر۔ القُوَیْسَۃُ: اور اسے ناعمۃ بھی کہتے ہیں (ن): چٹانوں کے شگافوں میں اگنے اور گلابی رنگ کے پھولوں والی ایک قسم کی خوشبودار نباتات جو طبی فوائد کی حامل ہے۔

قوص: تَقَوْصَرَ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ القَوْصَرَۃُ القَوْصَرَّۃُ: کھجور وغیرہ رکھنے کا بانس کا بنا ہوا ٹوکرا۔

○ قوس (مذکر و مونث) جمع اَقوَاس و قُسِی و قِسِی: کمان، لمبی کمان، کسی دائرے یا خم دار خط کا کوئی حصہ (جومیٹری) محراب یا محراب دار چھت (کسی پل کی) سارنگی کی کمان، نصف دائرہ کی میز۔ قوسان: قوسین (کسی عبارت کے دونوں طرف) القَوْس: منطقۃ البروج کا ایک برج قوس (یا دھن) بین قوسین: قوسین کے درمیان، قوسین میں۔ قوس قُزَح: دھنک، قوس النَّدف: روئی دھننے یا اون تومنے کی کمان۔ قوس النصر: محراب فتح۔ لم یبق فی قوس صبری منزعٌ: میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ (لفظی ترجمہ، میرے صبر کی کمان کیلئے کوئی تیر نہیں بچا)۔ قوّاس: کمانیں بنانے والا، تیر انداز۔ قونصل کا محافظ قُوَیسَۃ: ساج ایک سدابہار جھاڑی اور اس کی پتیاں جو دواؤں اور ذائقہ پیدا کرنے کے کام آتی ہیں۔ مُقَوَّس: جھکا ہوا، مڑا ہوا، ٹیڑھا، محرابی۔

○ قُوش جمع اَقوَاش: چمڑے کی پٹی جو زین کے پچھلے حصہ کے ایک طرف سے شروع کر کے گھوڑے کی دم کے نیچے سے نکال کر دوسری طرف باندھی جاتی ہے تا کہ زین اپنی جگہ سے کھسکنے نہ پائے۔ گھوڑے کا تنگ۔ قاوُوش جمع قواویش: جیل کی کوٹھڑی۔ قید خانے کی کال کوٹھڑی۔

○ قوّاص: بمعنی قوّاس

قوض: قَاضَ یَقُوضُ قَوْضًا البناءَ: عمارت ڈھانا۔ قَوَّضَ البناءَ: عمارت ڈھانا ـــ الصفوفَ و المجلسَ: کو منتشر کرنا، برخاست کرنا۔ کہا جاتا ہے: بَنٰی فلانٌ ثُمَّ قَوَّضَ: جب کوئی بھلائی کے بعد برائی کرے۔ تَقَوَّضَ: آنا جانا، نہ نکلنا، ـــ ت الحلقُ او الصفوفُ: حلقوں اور صفوں کا متفرق ہونا۔ واِنقَاضَ البناءُ: عمارت کا منہدم ہونا۔

○ تَقَوَّضَ: مسمار ہونا، ڈھے جانا، گر پڑنا، بھیڑ کا منتشر ہو جانا ـــ عن: سے باز رہنا، کی اطاعت قبول کر لینا، کے دباؤ کے تحت شکست ہو جانا، سے دست بردار ہو جانا۔ مُقَاوَضَۃ: مبادلہ۔

قوط: القَوْطُ ج اَقوَاطٌ: بکریوں کا ریوڑ۔ القَوْطَۃُ: بڑا ٹوکرا۔ القُوطَۃُ: کھجور۔ القَوَّاطُ: بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والا۔

○ القُوط: قوطی لوگ۔ قُوطِی: قوطی، قوط سے متعلق، قَوْطَۃ: (پھلوں کی) چھوٹی ٹوکری، کھجوروں کی ٹوکری۔ قُوطَۃ: ٹماٹر، ولایتی بینگن۔

قوع: قَاعَ یَقُوعُ قَوْعًا: پیچھے رہنا۔ پچھلے پاؤں مڑنا ـــ و تَقَوَّعَ: کانٹے دار جگہ میں چلنے والے کی طرح بچنا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بچا تا چلنا۔ القَاعُ ج اَقْوَاعٌ و اَقْوُعٌ وقِیْعٌ و قِیْعَانٌ وقِیْعَةٌ: پست ہموار پہاڑ اور ٹیلوں سے دور واقع زمین۔ القَاعَةُ ج قَاعَاتٌ: گھر کا صحن۔ ڈرائنگ روم۔ القَوْعُ (مص) ج اَقْوَاعٌ: گندم اور کھجور وغیرہ کے خشک کرنے کی جگہ۔ القُوَاعُ مونث قُوَاعَةٌ (ح): خرگوش۔ القَوَّاعُ (ح): بلبلانے والا بھیڑیا۔

قوف: ا۔ قَافَ یَقُوْفُ قَوْفًا و اِقْتَافَ اثرَ فلان: کی پیروی کرنا، کے پیچھے جانا۔ تَقَوَّفَ اثرَ فلان: کا کھوج لگانا، کو تلاش کرنا ــــ ہ فی المجالس: کو بات کرنی سکھلانا، کلام کی اصلاح کرنا۔ کہا جاتا ہے: هُوَ یَتَقَوَّفُ عَلَیَّ مَالِیْ: وہ میرے مال کو مجھ سے روکتا ہے۔ القَائِفُ (فا) ج قَافَةٌ: کھوج لگانے والا قیافہ شناس، مولود کے اعضاء کو دیکھ کر اپنی فراست سے اس کا نسب بتانے والا۔ القَوَافُ و القَوَّافُ: کھوج لگانے والا۔ الاَقْوَفُ: اسم تفضیل، کہا جاتا ہے۔ هو اَقْوَفُ النَّاسِ لِلاَثَرِ: وہ لوگوں میں سے نشانات کا زیادہ کھوج لگانے والا ہے۔

۲۔ القَافُ من الرقبة: گدی کے بال القُوْفُ: کان کا بالائی حصہ۔ والقُوْفَةُ من الرقبة: گدی کے بال، کہا جاتا ہے۔ اَخَذْتُهُ بقُوْفِ رَقَبَتِهِ: میں نے اس کی پوری گدی پکڑ لی۔ القُوْفِیُّ: ہر خوشبودار دھونی۔

○ قَاعٌ جمع قِیْعَان و اَقْوَع و اَقْوَاع: ہموار پست زمین، سب سے نچلا حصہ، پیندا، دو موجوں، انخفاض، کان کا فرش، گہرا بڑا گڑھا، اتھاہ، قاع النهر دریا کی تلہٹی، بِلادُ القاع: نیدرلینڈز (نشیبی ملک ہالینڈ و بلجیم) قاعَة جمع قاعات: پختہ فرش والا صحن، ڈیوڑھی، ہال، کافی بڑا کمرہ۔ قاعةُ المحاضرات: لیکچر ہال، (یونیورسٹی) آڈیٹوریم قاعةُ التدریس: لیکچر روم، کلاس روم قاعةُ الطعام: کھانے کا کمرہ، مشترکہ کھانے کا ہال، قاعة العرش: تاج والا کمرہ قاعة المطالعة: ریڈنگ روم، سٹڈی ہال۔ قاعة الافراح: خاص ضیافت کا ہال، بال روم (اجتماعی رقص کا کمرہ)

قوق: ا۔ قَاقَ یَقُوْقُ قَوْقًا ت الدجاجةُ: مرغی کا کڑکڑانا۔ القَاقَ: بے وقوف۔ (ح): پہاڑی کوا۔ عندالعامة ج قِیْقَانٌ (ح): کوا۔ ۔ والقُوْقُ: لمبی گردن والا آبی پرندہ ــــ والقِیْقُ من الرجال: بہت لمبا مرد۔ القُوْقَةُ (ح): ایک قسم کا پرندہ جو اجاڑ جگہوں میں رہتا ہے۔ القَاوُوْقُ ج قَوَاوِیْقُ: ایک قسم کی لمبی ٹوپی جو عجمی ممالک میں استعمال کی جاتی ہے (فارسیہ)

۲۔ قَوْقًا قَوْقَاةً ت الدجاجةُ: مرغی کا کڑکڑانا۔

۳۔ قَوْقَلَ قَوْقَلَةً الرجلُ فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔

۴۔ قَوْقی قَوْقَاةً و قِیْقَاءً: چیخنا، چلانا۔

○ قاق جمع قیقان: پہاڑی کوا، قاقُ الماء قوق (ماہی خور پرندہ) اُمُّ فُوَیق: الو، بوم۔ القوقاز اور القوقاس: کاکیشیا، قفقاز، کوہ قاف۔ بحیرہ اسود سے بحیرہ کیسپین تک پھیلا ہوا سلسلہ کوہ القوقازیون: اس علاقہ کے لوگ۔

قَوْقَع: سیپی قَوْقَعَة جمع قَوَاقِع: گھونگا۔

قول: ا۔ قَالَ یَقُوْلُ قَوْلًا وقَالًا وقِیْلًا و قَوْلَةً و مَقَالًا و مَقَالَةً: کہنا، بولنا۔ ــــ بکذا: کا حکم کرنا، پر اعتقاد رکھنا۔ غالب ہونا ــــ به: سے محبت کرنا اور اسے اپنے لئے خاص کرنا۔ ــــ لهُ: سے خطاب کرنا۔ ــــ عنه: سے روایت کرنا۔ ــــ علیه: پر افترا کرنا، تہمت لگانا۔ برأسه: سر سے اشارہ کرنا ۔ بیده: ہاتھ جھکا کر پکڑنا۔ ۔ برجله: چلنا۔ ۔ بثوبه: کپڑے کو بلند کرنا۔ ۔ فیه وعنه: میں اجتہاد کرنا۔ اور قَالَ ظَنَّ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کا عمل کرتا ہے بشرطیکہ مخاطب کا صیغہ اور فعل مستقبل ہو اور اس سے پہلے استفہام اور استفہام اور فعل کے درمیان ظرف کے علاوہ کسی اور چیز کا فاصلہ نہ ہو جیسے۔ اَتَقُوْلُ زَیْدًا مُنْطَلِقًا بمعنی اَتَظُنُّهُ مُنْطَلِقًا: اور بعض کے نزدیک ظَنَّ کے معنی میں بلا کسی شرط کے مستعمل ہے چاہے استفہام ہو یا نہ ہو، صیغہ مخاطب کا اور فعل مستقبل کا ہو یا نہ ہو جیسے قُلْتُ زَیْدًا مُنْطَلِقًا بمعنی ظَنَنْتُ اور کبھی یہ مَالَ اور اَقْبَلَ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور افعال کی تیاری کو بھی قول سے تعبیر کرتے ہیں کہا جاتا ہے قَالَ فَاَکَلَ و قَالَ فَضَرَبَ وغیرہ۔ قَوَّلَ ہٗ: کو بات کہنے کی تعلیم دینا یا اس کا یعنی کہنے کا حکم دینا۔ ــــ واَقَالَ اِقَالَةً و اَقْوَلَ اِقْوَالًا فلانًا مالم یقُل: سے نہ کہی ہوئی بات کو منسوب کرنا۔ قَاوَلَ مُقَاوَلَةً ہٗ فی الامر: سے پر مباحثہ کرنا۔ تَقَوَّلَ علیه القولَ: کے متعلق جھوٹ گھڑنا۔ تَقَاوَلُوْا فی الامر: پر گفت و شنید کرنا۔ اِقْتَالَ الشیئَ: کو پسند کرنا۔ ۔ علیهم: پر حکم لگانا۔ ــــ بالثوب ثوبا: کپڑے کو کپڑے سے بدل لینا۔ القَائِلُ ج قُوَّلٌ و قُیَّلٌ و قَالَةٌ و قُوُّلٌ (فا)۔ القَالُ: ابتدایا سوال، کہنے والا جیسے رَجُلٌ قَالٌ: بمعنی قَائِل۔ القَالُ و القِیْلُ: (دونوں مصدر ہیں): گفتگو کہا جاتا ہے۔ کَثُرَ قَالُ النَّاسِ وقِیْلُهُمْ لوگوں کی باتیں بڑھ گئیں۔ القَالَةَ: لوگوں کے اندر بھلی یا بری پھیلی ہوئی بات، کہا جاتا ہے۔ کَثُرَتْ قَالَةُ النَّاسِ: لوگوں میں پھیلی ہوئی اچھی یا بری بات بڑھ گئی۔ ــــ والقَوْلَةُ بمعنی القول۔ القَوْلُ ج اَقْوَالٌ جج اَقَاوِیْلُ: کلام یا ہر ایک لفظ، گفتگو آرا و اعتقادات، کہا جاتا ہے۔ هٰذَا قَوْلُ فلان: یہ فلاں کی رائے یا اعتقاد ہے۔ القِیْلُ: جواب۔ القَیْلُ ج اَقْوَالٌ واَقْیَالٌ و قُیُوْلٌ: رئیس۔ حمیر کے بادشاہ کا لقب۔ القُوَلَةُ والقَوَّالَةُ والقَوُوْلُ والقَؤُوْلُ ج قُوُلٌ و قُوْلٌ والتِقْوَلَةُ والتِقْوَالَةُ: خوش بیان، بہت بولنے والا۔ القَوّال جمع قُوُل و قُوْل: خوش بیان، بہت بولنے والا۔ ۔ ج قَوَّالُوْنَ: گویا۔ ۔ فی اصطلاح الزجالین: ترنم اور لے سے پڑھنے والا۔ المَقَالُ (مص): گفتگو۔ المَقَالَةُ: گفتگو، کتاب کا ایک حصہ۔ المُقَاوَلَةُ: دو یا زائد اشخاص کے درمیان کسی کام یا عمارت کی تعمیر یا تجارت وغیرہ کے مسئلہ پر باہمی شرکت پر بات چیت، گفتگو، بحث، معاہدہ، سودا وغیرہ المِقْوَلُ ج مَقَاوِلُ و مَقَاوِلَةٌ: زبان ــــ والمِقْوَال ج مَقَاوِلُ و مَقَاوِلَة: اچھی گفتگو کرنے والا، تیز زبان شخص ــــ اِمْرَاَةٌ مِقْوَلٌ و مِقْوَالَةٌ: اچھی گفتگو کرنے والی۔ تیز زبان عورت المَقُوْلُ والمَقُوُوْلُ (مفع) مَقُوْلُ القَوْلِ عند النحاة: القول کا مفعول۔ کَلِمَةٌ مُقَوَّلَةٌ: بار بار کہا ہوا کلمہ۔

۲۔ قَالَ یَقُوْلُ قَوْلًا و قَالًا و قِیْلًا و قَوْلَةً و مَقَالًا و مَقَالَةً: مرنا۔ ۔ القومُ بفلان: کو قتل کرنا۔ الحائطُ: دیوار گرنا۔

۳۔ قَالَ یَقُوْلُ قَوْلًا و قَالًا و قِیْلًا و قَوْلَةً ومَقَالًا و مَقَالَةً: آرام کرنا۔ القَالَةُ: دوپہر کا قیلولہ۔

○ قَالَ ـُ قولا ہ ل: کچھ کسی سے کہنا، کچھ کسی کو بتانا۔ ۔ ہ عن و فی: کے متعلق یا بارے میں کسی کو کچھ بتانا، کہنا۔ ــــ ہ بکا اظہار کرنا، کچھ کہنا، بولنا، زبان سے نکالنا۔ ۔ عن: کے بارے بات کرنا، سے متعلق ہونا، پر ہونا۔ ۔ ب: کو بیان کرنا، (رائے) رکھنا، کو وثوق سے کہنا۔ کو پیش کرنا، کی تعلیم دینا، تسلیم کرنا، کی وکالت کرنا، تائید کرنا، کے حق میں بولنا، کی حمایت کرنا، نظریہ ہونا، کے لئے جدوجہد کرنا (نظریہ وغیرہ) کا حامی ہونا، کو بیان کرنا۔ ۔ علی: کے خلاف بولنا، کے متعلق جھوٹی باتیں بتانا۔ قال برأسه: سر کے اشارے سے کہنا۔ قِیْلَ فی المَثَل: کہاوت، ضرب المثل ہے کہ...... ولایُقَالُ اِنّ: کوئی کہہ نہیں سکتا کہ، کوئی نہ کہے کہ اَوقُلْ: یا اس کے بجائے یا ٹھیک ٹھیک کہنا چاہئے کہ...... وقُلْ مِثْلَ هذه فی یا وکذلك قل فی یا وقُلْ مِثلَهُ فی: یہی بات کے بارے میں کہنی چاہئے،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

یہی بات کے بارے میں کہی جا سکتی ہے، یہی بات سے مطابقت رکھتی ہے۔ قَاوَلَ ہ: سے صلاح مشورہ کرنا، سے شرائط کی بات چیت کرنا، سے شرائط طے کرنا، سے گفت وشنید کرنا، سے قیمت پر بول تول کرنا، معاملہ طے کرنا، سودا کرنا، کے ساتھ سودا کرنا، معاملہ طے کرنا۔ ـــ: جھگڑنا، شور مچا کر جھگڑنا، بحث کرنا، ٹھیکہ دینا یا لینا۔ تَقَوَّلَ علی: کے بارے میں افواہیں پھیلانا، جھوٹی باتیں گھڑنا، بنانا ـــ ہ کو مضمر معنی میں بیان کرنا (جھوٹا بیان) دینا، کا ادعاء کرنا۔ تَقَوَّلَ الاقزیل حماقت کی باتیں کرنا۔ اِسْتَقْوَلَ (ریڈیو پر آواز) ادا کرنا، پیش کرنا۔ قَال و قِیل و قِیل و قال طویل گفتگو، مباحثہ یا لا طائل گفتگو، فضول گفتگو، گپ شپ۔ قالۃ گفتگو، تقریر۔ سُوءُ القالۃ کینہ جو گپ شپ، چغل خوری، ہتک عزت۔ قَوْل جمع اقوال و اقاویل لفظ، تقریر، قول، کہنا، بیان اعلان، رپورٹ (کسی مذہب کی) تعلیم، عقائد، جمع اقوال: (عدالت میں) شہادت، تصدیقی بیان، اَقَاوِیل: مقولے، محاورے، کہاوتیں، ضرب الامثال۔ قولاً و عَمَلاً یا بالقول و الفِعل: قول اور عمل سے اقوال الشهود: شہادتیں، حلفی بیانات، گواہیاں۔ أَعْطَ قولَہ: (نیلام، نیلامی میں) بولی دینا۔ قَوْلَۃ: قول، ارشاد، مقولہ، اعلان۔ قَوَّال: بکواسی، باتونی، فصیح، بے تکلف باتیں کرنے والا، جگہ جگہ جا کر گانے والا، مطرب۔ مِقْوَل جمع مَقَاوِل: فونوگراف، گراموفون، باتیں کرنے والی مشین۔ مقال: تقریر، مقالہ، رسالہ، تحریر کا ٹکڑا، تعلیم، حجت، عقائد۔ مَقَالَۃ جمع مقالات: مضمون، جواب مضمون، مقالہ، رسالہ۔ مقالۃ اِفتتاحِیۃ: اداریہ، ادارتی مقالہ، افتتاحیہ۔ مقاوَلۃ: گفتگو، مکالمہ، مشاورت، مناقشت، معاہدہ، ٹھیکہ، تصفیہ، سودا، معاملہ، کاروبار۔ بالمقاولۃ: ٹھیکہ کے کام کے مطابق، بقدر کام۔ تقوُّل جمع تقوُّلات: بات چیت، افواہ، گپ شپ۔ قَائِل جمع قُوَّل: کہنے والا، بتانے والا، بیان کرنے والا، کہانی کہنے والا۔ ـــ ب کا حامی، موید، محرک۔ مَقُول جمع مقولات: بات، جو کہا جائے، اظہار خیال، لفظ الفاظ، گفتگو۔ المقولاتُ العَشْر: دس مقولے (فلسفہ) مقاوِل: ٹھیکیدار، عمارتی ٹھیکیدار قَوْل: فوج کا بازو، فوجی دستہ، جیش (ترکی) قول اغاسی: ایجوٹنیٹ میجر (Adjutant major) قَولَحۃ جمع قَوَالِح: مکی، جوار، باجرہ وغیرہ کا) بھٹا یا تکہ۔ قَوْلَنج: قولنج، تشنج۔ قَوْلَون قولون، بڑی آنت۔

قوم: ۱۔ قَامَ یَقُوْمُ قَوْمًا و قَوْمَۃً و قِیَامًا و قَامَۃً: کھڑے ہونا ٹھہرنا، تم چلنے والے کو کہتے ہو۔ قُمْ لِیْ: یعنی میری وجہ سے ٹھہرو۔ ـــ الامرُ: اعتدال پر ہونا۔ قَوَّمَ دَرْأَہُ: کی کجی کو دور کرنا۔ قَاوَمَ قِوَامًا و مُقَاوَمَۃً ہ: کے ساتھ کھڑا ہونا، کی مخالفت کرنا۔ اَقَامَ اِقَامَۃً و قَامَۃً ہُ: کو کھڑا کرنا۔ ـــ المائِلَ او المُعوَّجَ: کو سیدھا کرنا اور تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ مَا اَقْوَمَہٗ: وہ کتنا اعتدال پر ہے اور یہ مزید سے آنے کی وجہ سے شاذ ہے۔ تَقَوَّمَ: سیدھا ہونا۔ تَقَاوَمُوْا فی الحرب: بعض کا بعض کے لئے کھڑا ہونا۔ استقام استقامۃً: اعتدال پر ہونا، سیدھا ہونا۔ اِسْتَقَامَ لَہُ الْاَمْرُ: اس کے لئے معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ ـــ الشِعْرُ: شعر موزوں ہونا۔ القائِمُ (فا) ج قُوَّمٌ و قُیَّمٌ و قُوَّامٌ و قُیَّامٌ و قِیَمٌ و قِیَامٌ (فا) قَائِمُ المَاءِ: واٹر ورکس۔ القائِم مَقام ج قُوَّامُ المَقَامَات۔ و قَائِمٌ مَقَامُوْنَ عند ارباب السیاسۃ: نائب۔ القَائِمۃُ ج قَائِمَاتٌ و قَوَائِمُ: القائم کا مونث۔ قائمۃ الدابۃ: جانور کی اگلی یا پچھلی ٹانگ۔ قَائمۃُ الخُوَانِ او السَّرِیْرِ: دسترخواں یا تخت کا پایہ۔ القَامَۃُ من الانسان ج قَامَاتٌ و قِیَمٌ: قد و قامت۔ ـــ ج قِیَمٌ: چرخی مع سامان کہا جاتا ہے۔ اِسْتَقَوْا عَلَی القَامَۃِ: انہوں نے چرخی پر پانی کھینچا۔ القَوْمُ ج قِیْمَانٌ: دشمن لوگ۔ القَوْمَۃُ (مص): قَامَ سے اسم مرہ: رکوع اور سجدہ کے درمیان قیام، قامۃ الانسان: انسان کی قامت۔ القُوَام: چوپایہ کے پاؤں یا ٹانگوں میں لگنے والی ایک بیماری۔ القَوَامُ: اعتدال، عدل۔ قَوَامُ الانْسَانِ: قد وقامت۔ القِوَامُ: سیدھا، کہا جاتا ہے۔ رُمْحٌ قِوَامٌ: سیدھا نیزہ۔ القَوَّامُ ج قَوَّامُوْنَ: اچھے قد وقامت والا۔ قَوْمِیَّۃُ الانسان و قُومِیَّتُہٗ: قد وقامت القَوِیْمُ ج قِیَامٌ: اچھے قد وقامت والا۔ معتدل القِیَامَۃُ: موت کے بعد اٹھنا۔ یَوْمُ القِیٰمَۃِ: قبروں سے اٹھنے کا دن۔ القِیْمَۃُ ج قِیَمٌ: قام سے اسم نوع۔ ـــ قِیْمَۃُ الانْسَانِ: انسانی قامت۔ اَمْرٌ قَیِّمٌ: سیدھا معاملہ۔ الدِّیَانَۃُ القَیِّمَۃُ: سیدھا دین، راست بازی کہا جاتا ہے۔ ذلك دِیْنُ القیِّمَۃ: بمعنی ذلك دینُ الامۃِ القیِّمۃ: یہ سچی امت کا دین ہے الأَقْوَم: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ اَقْوَمُ کَلَامًا مِنْ فُلَانٍ: فلاں بنسبت فلاں کے زیادہ سیدھی سادھی گفتگو کرنے والا ہے۔ المَقَامُ ج مَقَامَاتٌ: کھڑے ہونے کی جگہ۔ المِقْوَمُ: ہل کا دستہ۔ المُقِیْمُ (فا): کہا جاتا ہے۔ هٰذَا اَمْرٌ مُقِیْمٌ مُقْعِدٌ: یہ معاملہ پریشان کن ہے

۲۔ قَامَ یَقُوْمُ قَوْمًا و قَوْمَۃً و قِیَامًا و قَامَۃً بالامر کا انتظام کرنا، کہا جاتا ہے قَامَ بِیْ وقَعَدَ: یعنی اس نے میرے متعلق بری خبریں پھیلائیں۔ ـــ الحقُّ: حق ظاہر اور ثابت ہونا۔ ـــ اهلہ: اہل وعیال کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ـــ علی الامر: کی نگہبانی کرنا، پر مداومت کرنا۔ ـــ ت الصلوٰۃُ: نماز شروع ہو گئی۔ ـــ فی الصلوٰۃ: کو شروع کرنا، کہا جاتا ہے۔ قَامَ یَفْعَلُ کَذَا: یعنی ایسا کرنے لگا۔ قَوَّمَ الشیئَ: کو سیدھا کرنا اور اسی سے تَقْوِیمُ البُلْدَانِ: ہے جس کا معنی ہے شہروں کا طول وعرض بیان کرنا۔ اَقَامَ اِقَامَۃً و قَامَۃً الشیئَ: کی مداومت کرنا۔ ـــ بالمکان: میں رہنا، کو وطن بنا لینا۔ الحقَّ: حق ظاہر کرنا۔ ـــ للصلوٰۃ: اقامت کہنا۔ ـــ الصلوٰۃَ: کامل طریقہ سے نماز ادا کرنا۔ تَقَوَّمَ الشیئُ: سیدھا ہونا، کہا جاتا ہے۔ قَوَّمْتُہٗ فَتَقَوَّمَ: میں نے اسے سیدھا کیا تو وہ سیدھا ہو گیا۔ قَائِمُ السَّیْفِ: تلوار کا قبضہ۔ القَائِمَۃُ: کتاب کا ورق۔ قَائِمَۃُ السَّیْفِ: تلوار کا قبضہ۔ العَیْنُ القَائِمَۃُ: ایسی آنکھ جس کی بینائی زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا اپنی جگہ پر قائم ہو۔ القَامَۃُ (مص) ج قَامَاتٌ و قِیَمٌ: لوگوں کی جماعت۔ القُوْمُ: کسی جگہ میں اقامت کرنا، ارادہ۔ القَوْمُ: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ـــ ج اَقْوَامٌ و اَقَاوِمُ و اَقَائِمُ و اَقَاوِیْمُ: لوگوں کی جماعت۔ قَوْمُ الرَّجُلِ: قریبی رشتہ دار جو ایک دادا میں شریک ہوں۔ القَوْمِیُّ: جس کی طرف قوم کی نسبت ہو۔ قومی القَوْمِیَّۃُ: سیاسی واجتماعی اصول جس کی رو سے اپنی قوم کے معاملات کو ترجیح دی ہوتی ہے۔ قومیت، قومی جذبہ، قوم پرستی قَوْمِیَّۃُ الامرِ: معاملہ کی درستگی۔ القَوَام: گزارا لائق خوراک۔ القِوَام: گذارہ لائق خوراک۔ قِوَامُ الاَمْرِ و قِیَامُہٗ: مایہ درستگی، جس سے کسی چیز کا قیام ہو کہا جاتا ہے۔ هُوَ قِوَامُ اَهْلِہٖ وقِیَامُهُمْ: وہ اپنے اہل وعیال کے لئے سہارا ہے۔ القَوَّامُ ج قَوَّامُوْنَ: امور کا منتظم، اچھی نگرانی کرنے والا، امیر۔ القَیُّوْمُ و القَیَّامُ: وہ ذات جو ابدی اور قائم بالذات ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ القَیِّمُ علی الامر: مونث قَیِّمَۃٌ: متولی منتظم۔ قَیِّمُ المَرْأَۃِ: شوہر۔ الاِقَامَۃُ ج اِقَامَاتٌ: اَقَامَ سے مصدر ہے، کہا جاتا ہے۔ طَوٰی بِسَاطَ الاِقَامَۃِ: یعنی کوچ کیا۔ اِقَامَۃُ الجُنْدِیَّ: فوجی کی ڈیوٹی۔ التَّقْوِیْمُ (مص): جنتری۔ ـــ الرومی او الیولیوسی: سال کبیسہ والی جنتری جس میں فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور سال چار پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ ـــ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الهجري: بارہ قمری مہینوں کے سال والی جنتری جو ۳۵۴ شمسی دنوں کا ہوتا ہے اور بیسہ سالوں میں ۳۵۵ شمسی دنوں کا۔ الغريغوري: گری گورین کلنڈر، جس میں صدیوں والے سال جیسے ۱۶۰۰ اور ۱۷۰۰ اس وقت تک سال کبیسہ شمار نہیں کئے جاتے جب تک وہ ۴۰۰ پر پورا پورا تقسیم نہ ہوں ۔۔ تَقْوِيمُ الْبُلْدَان: ممالک کے طول عرض اور زمین کے خراج کا بیان۔ المَقَامُ ج مَقَامَاتٌ: مرتبہ ۔۔ و المُقَامُ: کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کی جگہ اور وقت المُقَامَة: کھڑا ہونا، قیام کرنا، جائے قیام، لوگوں کی جماعت۔ المَقَامَةُ ج مَقَامَاتٌ: سرداری، مجلس، لوگوں کی جماعت، خطبہ یا وعظ یا روایت جو لوگوں کے مجمع میں بیان کی جائے۔ اسی سے ہے۔ مقامات حریری۔

۳۔ قَامَ يَقُوْمُ قَوْمًا وقَوْمَةً وقِيَامًا و قَامَةً الماءُ: پانی کا نکلنے کی جگہ نہ پانے کی وجہ سے ٹھہر جانا، جامد ہونا ۔۔ ت به دابَّتُهُ: کے جانور کا تھک جانا ۔۔ مِيْزَانُ النَّهَار: دوپہر ہونا۔

۴۔ قَامَ يَقُوْمُ قَوْمًا و قَوْمَةً و قِيَامًا و قَامَةً ت السوقُ: بازار کا رائج ہونا ۔۔ المتاعُ بكذا: کی قیمت کے برابر ہونا۔ قَوَّمَ المتاعَ: کی قیمت لگانا۔ قَاوَمَ قِوامًا و مُقَاوَمَةً الشيئَ: کا قائمقام ہونا، کہا جاتا ہے۔ قَاوَمَ الثَّمنُ المَتَاعَ: یعنی قیمت کا سامان کا قائمقام ہونا۔ اَقَامَ إقَامَةً وقَامَةً السوقَ: بازار لگانا۔ تَقَاوَمَ القومُ الشيئَ بينهم: آپس میں چیز کی قیمت کا اندازہ لگانا۔ اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَةً المتاعَ: یعنی سامان کی قیمت لگانا۔ القَائِمَةُ (ت): حساب کھاتہ۔ القِيْمَةُ ج قِيَمٌ: قیمت القِيْمِيُّ: قیمت کی طرف منسوب۔ القَيِّمُ: ہر قیمت والی چیز، کہا جاتا ہے۔ كِتَابٌ قَيِّمٌ: قیمتی کتاب۔ مَقَامُ او مَخْرَجُ الكسر (ع ح): نسب نما (کسی کسر میں لائن کے نیچے کا عدد) چنانچہ ۲/۳ میں ۳ نسب نما ہے۔

۵۔ قَامَ يَقُوْمُ قَوْمًا و قَوْمَةً و قِيَامًا وقَامَةً به ظَهْرُهُ: کو دردمند کرنا ۔۔ علىٰ غريمه: قرضدار سے مطالبہ کرنا۔ اِقْتَامَ اِقْتِيَامًا انفهُ: کی ناک کاٹنا۔

۶۔ القُوْمَانْدُسُ: بحری فوجی کمانڈو (لاتینیہ)۔

○ قام ۔ قومةً و قِيامًا: اٹھنا، کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا (آوازوں، شور، ہوا) کا اٹھنا۔ قام عليه: کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، کے خلاف بغاوت کرنا، پر حملہ کرنا قام لَهُ: کے اعزاز میں اٹھنا ۔۔ (مردے) کا زندہ ہونا، جی اٹھنا، چڑھنا، روانہ ہونا (ٹرین کا) روانہ ہونا۔ اِلي: کی طرف جانا ۔۔ کھڑا رہنا، ہونا، موجود ہونا، واقع ہونا ۔۔ ب: پر مشتمل ہونا ۔۔ علي: پر مبنی ہونا، پر بنا ہونا، (کتاب وغیرہ کا) اپنے اصلی موضوع کے لئے ایک مشکل رکھنا قام يَفْعَلُ: کچھ کرنا شروع کرنا ۔۔ ب: کو اپنا شغل بنانا، میں مصروف ہونا، سے دلچسپی لینا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کو کرنا، بجالانا، عمل میں لانا، انجام دینا پورا کرنا، سے کام لینا، کے لئے جدوجہد کرنا، کی تائید کرنا، کی حمایت کرنا، وکالت کرنا، کی تصدیق کرنا ۔۔ علي: کا نگران ہونا، کا انتظام کرنا، کو چلانا، کی دیکھ بھال کرنا، کو محفوظ رکھنا، کی نگہداشت کرنا، کا خیال رکھنا، پر توجہ کرنا، کی نگہبانی کرنا ۔۔ ب: کی قیمت کا ہونا۔ قام البرهانُ علي: کے لئے ثبوت مہیا کیا گیا تھا۔ قام بأعْبَاءِ الحكم: حکومت کے بوجھ اپنے ذمے لینا، اقتدار سنبھالنا، قام بَاوَدِهِ: کی ضروریات کا اہتمام کرنا، کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا۔ قام بدَوْرٍ: کردار ادا کرنا۔ قام بِشَأْنِهِ: کی دیکھ بھال کرنا، کو اپنے زیر حمایت لینا، قام بالمَصَارِيف: اخراجات ادا کرنا، خرچ چکانا۔ قام بالواجب عليه: اپنا فرض ادا کرنا۔ قام بوَعْدِهِ: اپنا قول نبھانا۔ قَامَتِ الحربُ علي ساقٍ: جنگ سخت تھی یا سخت ہوگئی، جنگ بھڑک اٹھی، جنگ شروع ہوگئی۔ قَامَ الحقُّ: حق واضح تھا یا واضح ہوگیا۔ قامت الصلاةُ: نماز کا وقت ہوگیا۔ قام علي قَدَمٍ و ساقٍ: مکمل طور پر موثر ہوجانا، ہورہا ہونا، پورے زور وشور سے جاری ہونا۔ قاموا قومة رجلٍ واحدٍ: وہ ایک آدمی کی طرح اٹھے۔ لم تَقُمْ لَهُ قائمةٌ بَعدُ: وہ مزاحمت کرنے کے قابل نہ رہا، وہ قریب قریب ختم ہوگیا۔ لاتقوم للاعداء قائمة: دشمنوں کے خلاف کوئی مزاحم یا مدافعت نہیں ہے۔ قامتْ قِيامَتُهُ: جوش میں آنا، ناراض ہونا، خشمناک ہونا، برا فروختہ ہونا، غصہ میں بھرا ہوا ہونا، قامت قيامته ل (من): سے پریشان ہو جانا، سے صدمہ پہنچنا، پر شدت سے مضطرب ہونا، قَامَ فِي وَجْهِهِ: کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، کے مقابلہ میں آنا۔ قام مَقَامَهُ: کی جگہ لینا، کی قائمقامی کرنا، کسی کی جگہ قائم مقام ہونا، کی حیثیت سے کام کرنا، کی جگہ کام کرنا، کی جگہ لینا۔ قَامَ منه مقامَهُ: کسی کی جگہ لینا۔ قَامَ و قَعَدَ: سخت پریشانی کی حالت میں ہونا، بری طرح پریشان ہونا، بہت مضطرب ہونا قام وقعد ل: سے سخت دہشت زدہ ہونا۔ لاقَامَ ولاقَعَدَ: پائیدار نہ ہونا، دیرپا نہ ہونا، لايُقَوَّمُ بِثَمَنٍ: بے انداز، بہت ہی زیادہ، بے حد، انمول، لايُقَاوَمُ: ناقابل مزاحمت اَقَامَ اَوَدَهُ: کی ضروریات کا اہتمام کرنا، وقت ضرورت کی مدد کرنا، أَقَامَ البرهانَ الجَلِيَّ علي: کے لئے واضح ثبوت مہیا کرنا، کو واضح طور پر ثابت کرنا اقام الحُجَّةَ: احتجاج کرنا، اقام حسابًا ل: کو حساب پیش کرنا، کو اپنا معاملہ بنانا، اقام الدليلَ علي ان: ثابت کرنا کہ اقام الشعائر الدينية: عبادتی رسومات ادا کرنا۔ اقام الصلاةَ: نماز ادا کرنا، أَقامَ العدلَ: انصاف کرنا۔ قانون سے کام لینا۔ اَقَامَ القُدَّاسَ علي: کے لئے دعا کرنا۔ اَقَامَ قضية (او دعوى) علي: کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا، پر مقدمہ کرنا۔ اَقَامَ لَهُ وَزْنًا: کو بہت اہمیت دینا، کو سہارا جاننا، لايُقَامُ لَهُ وزنٌ: ناقابل ذکر ہونا، اہم نہ ہونا۔ أَقَامَ مُبَارَاةً: مقابلہ کرنا۔ أَقَامَهُ مَقَامَهُ: کو کسی دوسری جگہ لانا۔ اَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الحامي: محافظ بننا۔ اَقَامَهُ واَقْعَدَهُ: کو سخت پریشان کرنا، کو سخت جوش کی حالت میں ڈالنا، اَقَامَ الدنيا و اَقْعَدَها: زمین اور آسمان ہلا دینا، ہلچل پیدا کرنا، ہیجان یا سنسنی پیدا کرنا۔ لايُقيمُ له قيامةً: وہ اپنی طرف سے کسی مزاحمت یا مدافعت کی پیش بندی کرتا ہے۔ استقام له الكلامُ في: اس نے کے بارے میں سچی بات بتائی۔ اس نے کے متعلق عقل کی بات کی۔ عالِمُ الاقوام: عالم اقوام، ماہر نسلیات، سيقول قوم إنَّ: لوگ کہیں گے کہ۔ قَوْمَة: اٹھنا، بغاوت۔ قَومِي: قومی، نسلی، قوميات: قومی خصوصیات جمع قَومِيَة: فرانسیسی شمالی افریقہ کے مقامی قبائل سے بھرتی کئے ہوئے مقامی گھڑسوار رسالہ کا رکن۔ قَومِيَة: قوم پرستی، وطن پرستی، قومیت قَيِّم: قیمتی، گراں بہا، سیدھا، محافظ، مہتمم، نگران، ناظم القَيِّمَة: سچا دین کتب قَيِّمة: گراں بہا یا قیمتی کتابیں قِيمَة جمع قِيَم: قیمت، قدر، مقدار، ذو قيمة: قیمتی، گراں بہا لاقيمة له: بیکار، ناکارہ، فضول۔ قِيمِي: قیمت کے متعلق، قیمت کے معیار کا قیمت کے مطابق، ناقابل تبادلہ، مال قيمي: ناقابل تبادلہ اشیاء۔ قِوامُ اهْلِهِ: گھر کا خرچ چلانے والا قِوامة: سرپرستی۔ قَوِيم: سیدھا، کھرا، صحیح، مناسب، مستند، معتبر، سچا (دین)، مضبوط، ٹھوس الي قيام الساعة: یوم آخرت تک، ہمیشہ کے لئے القَيُّوم: خدائے لم یزل۔ اَقْوَم: زیادہ سیدھا، زیادہ صحیح، زیادہ مضبوط، زیادہ مناسب، زیادہ موزوں التقويم الجريجوري: گری گورین کلینڈر۔ تقويم زمني: تاریخ نگاری، تاریخ۔ علم تقويم البلدان: جغرافیہ مُقَاوَمَة جوية: ہوائی جہازوں کے ذریعے دفاع۔ مقاومة سَلْبِيّة: مقاومت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مجہول۔ دون مقاومة: بغیر مزحمت، مقابلہ کے بغیر۔
محل الاقامة: رہائش گاہ۔ قائمٌ باعمال
المُفَوَّضِية اور قائمٌ بالاعمال: مدارالمہام، ناظم
الامور Charge daffaires۔ قائمٌ برأسه،
قائمٌ بذاته، قائم الذات و قائم بنفسه:
آزاد، قائم بالذات، خودموجود۔ فی قائم حیاتِه:
کی زندگی کے دوران قائم الزاویة: مستطیل، زاویہ
قائمہ کا، الزاویة القائمة: زاویہ قائمہ۔ قائم مقام:
ضلعی صدر، لیفٹیننٹ کرنل، بحری کمانڈر۔ قائمقامية:
قائم مقام کی سربراہی میں انتظامی ضلع۔ قائمة جمع
قوائم: ستون جمع قوائم و قائمات: فہرست،
بدلی جدول، رجسٹر، اشاریہ، نقشہ، جدول، گوشوارہ،
بچک، بل، فردحساب۔ قائمة الطعام: مینو، طعام
نامہ۔ مُقَوِّم: تخمینہ لگانے والا، تشخیص کنندہ، قیمت کا
اندازہ لگانے والا جمع مُقَوِّمات: بنانے والا عنصر،
ترکیبی عنصر، اے سی بجلی سے ڈی سی بجلی حاصل کرنے کا
ایک آلہ Rectifier، ریڈیو سیٹ میں متبادلہ رووں
کی تصحیح کرنے والا آلہ Detector، جمع مُقَوِّمات:
عناصر، ضروری اجزاء، ترکیبی اجزا، تشکیلی قوت یا علت
عاملہ، بنیادی عوامل، بنیادی اصول مقومات الحیاة:
گزر اوقات کے وسائل، دنیاوی جائیداد، دولت،
مقومات الجمال: سنگار کا سامان مقومات العُمْران:
تمدنی عوامل مُقَوَّمات: قیمتی جائیداد، قیمتی چیزیں، اقدار،
اثاثہ، املاک۔ مُقاوِم: مزاحمت کرنے والا، مقاومت
کرنے والا، مدافعت کرنے والا، نارضامند، مخالف،
حریف، مقابل، دشمن، مدمقابل، مقیمٌ بواجباته:
فرض شناس، ایماندار، وفادار، مقیم عام: ریذیڈنٹ
جنرل مُقِیمی: رہائشی۔ مقیمیة: ریذیڈنسی، قومسیر،
کمشنر، (فرانسیسی لفظ) قومندان: کمانڈر، کمانڈنٹ۔

قون: تَقَوَّنَ الرجلُ: زبان درازی کرنا۔ القان (ن):
ایک درخت جس سے کمانیں بناتے ہیں۔ القَاوُوْنُ
(ن): ککڑی کی ایک قسم۔ القُوْنَةُ ج قُوَنٌ لوہے یا
تانبے کا ٹکڑا جس سے برتن کو جوڑتے ہیں۔ ——
عندالعامة: ایقونہ: اس کی وضاحت کیلئے لفظ ایقونة
دیکھیں۔ (سریانیہ)۔

قوه: ۱۔ قَوَّهَ تقویها الرجلُ: چلانا۔ تقاوه الرجُلان:
نشان مقررہ سے ایک دوسرے کو چلا کر پہنچانا۔
۲۔ قَوَّهَ تَقْوِيْهًا الصيدَ: شکار کو گھیر کر کسی جگہ لانا اِسْتَقْوَهَ
هُ: سے شکار کو گھیر کر کسی جگہ لانے کیلئے کہنا۔
۳۔ ايْقَهَ: اطاعت کرنا، سمجھنا، کہا جاتا ہے۔ اَيْقِهْ لِهٰذَا:
یعنی اس کو سمجھو۔ —— واسْتَيْقَهَ: اطاعت کرنا اور یہ
دونوں اَوْقَهَ اور اِسْتَوْقَهَ کے مقلوب صیغے ہیں۔
القَاهُ: اطاعت، کہا جاتا ہے مَالَكَ عَلَيَّ قَاهٌ: تجھے
مجھ پر کوئی قدرت نہیں۔
۴۔ القَاهُ: عزت، خوش حال زندگی۔ القَاهِيُّ: خوش حال
زندگی والا۔ القُوْهَة: باسی دودھ۔
☆ قُوْنَة جمع قُوَن: بت، مجسمہ، تصویر، مذہبی مجسمہ، تصویر
اولیاء، صنم، مورتی، قونیة: کونیا (اناطولیہ کا ایک شہر)

قوی: ۱۔ قَوِيَ يَقْوَى قُوَّةً: توانا ہونا۔ — علی الامر:
کی طاقت رکھنا۔ قَوَّى الرجلَ او الشيءَ: کو مضبوط
کرنا۔ قَاوَى مُقَاوَاةً الرجلَ: پر طاقت میں غالب
ہونا، تم کہو گے۔ قَاوَانِي فَقَوَيْتُهُ: اس نے مجھ سے
قوت میں مقابلہ کیا تو میں غالب ہو گیا۔ اَقْوَى اِقْوَاءً:
مضبوط جانور والا ہونا۔ — الحبل: رسی کو جا بجا موٹا
بٹنا۔ — الشِعْرَ: اشعار کے قوافی کو اعراب میں مختلف
کرنا۔ تَقَوَّى: قوی ہونا، مضبوط ہونا۔ تَقَاوَى
تَقَاوِيًا القومُ المتاعَ بينهم: آپس میں بڑھاتے
بڑھاتے قیمت انتہائی قیمت پر پہنچنا۔ اِقْتَوَى اِقْتِوَاءً
الرجُلُ: مضبوط اور قوی ہونا۔ — المتاعَ: کی قیمت
بڑھانے کے بعد خریدنا۔ — الشیءَ: کو اپنے لئے
خاص کرنا۔ اِسْتَقْوَى اِسْتِقْوَاءً: قوی ہونا۔ القُوَّةُ
ج قُوَّاتٌ و قُوًى و قِوًى: زور۔ — ج قُوًى: رسی کی
لڑی، توانائی۔ قوة عددٍ ما: کسی عدد کو اسی سے ضرب
دینے کا حاصل، مثلاً ۷ کا دوسرا حاصل ضرب
۷×۷=۴۹ ہے اور $۷^{۲}$ لکھا جاتا ہے۔ تیسرا حاصل
ضرب ۵×۵×۵=۱۲۵ ہے اور $۵^{۳}$ لکھا جاتا ہے۔
القُوَى: عقل۔ القَوِيُّ ج اَقْوِيَاءُ: مضبوط، زور
دار۔ المُقْوِيُّ (فا): الفَرَسُ المُقْوِيُّ: مضبوط
گھوڑا۔ المُقَوَّى: گتا، دفتی۔
۲۔ قَوِيَ يَقْوَى قِيًّا و قَوَايَةً ت الدارُ: گھر کا خالی ہونا۔
— قَوَى: بہت بھوکا ہونا۔ — المطرُ: بارش بند ہونا۔
اَقْوَى اِقْوَاءً: چٹیل میدان میں اترنا محتاج ہونا،
نادار ہونا۔ — ت الدارُ: رہنے والوں سے خالی ہونا۔
— القومُ: قوم کا توشہ ختم ہونا۔ — الرجُلُ: خالی ہاتھ
آنا۔ — البقعة: کو خالی کرنا۔ تَقَاوَى تَقَاوِيًا: بھوکے
رات بسر کرنا۔ — القومُ الدلوَ: سب کا ڈول کے منہ
پر منہ لگا کر پینا۔ بَلَدٌ قَاوٍ: خالی شہر۔ القَاوِيَةُ۔
القَاوِي کا مونث۔ انڈا، کم بارش کا سال۔ اِبِلٌ
قَاوِيَاتٌ: بھوکے اونٹ۔ القَوَاءُ ج اَقْوَاءٌ: خالی اور
چٹیل میدان، بغیر بارش کے زمین، بھوک کہا جاتا
ہے۔ بَاتَ القَوَاءَ: اس نے بھوکے رات بسر کی۔
القَوَاءُ:
جمع اَقْوَاء: خالی زمین اور چٹیل میدان القَوَى: خالی
زمین، چٹیل میدان، بھوک کہا جاتا ہے بات القَوَى:
اس نے بھوکے رات گزاری ہے۔ القَوَايَةُ: بغیر بارش
کے زمین۔ —— والقِيُّ: خالی اور چٹیل میدان۔
القُوَيُّ: قَاوٍ کی تصغیر چوزہ۔ التَقَاوِيُ (مص)
تَقَاوِي الأمطارُ: بارش کی قلت۔ بَلَدٌ مُقْوٍ: شہر جو
بارش سے خالی ہو۔
۳۔ قَاوَى مُقَاوَاةً: کو دینا۔ اِقْتَوَى اِقْتِوَاءً شیئاً
بشيءٍ: کو سے تبدیل کرنا۔ القَاوِيُ: پکڑنے والا۔
لینے والا
۴۔ اِقْتَوَى اِقْتِوَاء علی فلان: پر عتاب کرنا۔
☆ قُوَات: مسلح افواج، فوج (جمع) بالقُوة: زبردستی،
جبلی طور پر، عملاً، درحقیقت بقوة وجلاء: اونچی اور
واضح آواز سے مُنسرِق القوة: کمزور کیا ہوا، تھکا ہوا،
ناتواں، مضمحل قوة احتیاطیة: ریزرو فوج، فاضل
فوج۔ قوة الاذاعة: نشریاتی قوت۔ قوة الارادہ:
قوت ارادی، قوة الاستمرار: مادہ کا جمود قوة
حافظة: یادداشت، حافظہ۔ قوة الحدود: سرحدی
پہرہ دار۔ قوة خفیفة: آزادانہ حرکت کرنے والی
ہلکی فوج۔ قوة دافعة کهربائیة: EMF برق زا
طاقت۔ قوة دفاعیة: کامل دفاعی قوت۔ قوة سطحیة:
سطحی مہم جودستہ (بحریہ) قوة الشراء: قوت خرید۔
قوة الصوت: آواز کا حجم، یا آواز کی گونج، زور، شدت
(ریڈیو) قوة عاقلة: عقلی، ذہنی قوت، ادراک کی
صلاحیت، قوة عراك: لڑا کا فوج۔ القوة علی
العمل: کام کرنے کی طاقت، پیداواری وسعت۔ قوة
القانون: قانونی طاقت قوة قاهرة: فاتح فوج۔
قوة مرکزیة: مرکزی طاقت۔ قوة مرکزیة
جاذبة: مرکز مائل قوت۔ قوة مرکزیة طاردة: مرکز
گریز قوت۔ قوة مُضادَّة للطائرات: طیارہ شکن
دفاع۔ قوة معنویة: اخلاقی قوت، قوت مقابلہ،
حوصلہ، ہمت، جوش، ولولہ۔ قوة النبت: نمو کی صلاحیت
قوة نظامیة: باقاعدہ فوج۔ قوات بحریة و بریة
و جویّة: بحری، بری اور ہوائی افواج اَلْعابُ القُوَى:
ورزشیں، کسرتیں، کود پھاند کھیل کود۔ قَوِيُّ العارضة:
پرجوش، زودفہم، تَقَاوِي: بیج (بونے کیلئے) ورق
مُقَوَّى: گتا، دفتی گتا۔

قیأ: قَاءَ يَقِيْءُ قَيْئًا ما اَكَلَهُ: قے کرنا۔ کھایا پیا الٹی کر
دینا صفت قَائِيٌّ۔ — ت الطعنةُ الدمَ: نیزہ کا خون
نکالنا، کہا جاتا ہے۔ قَاءَتِ الارضُ الكَمْأَةَ: زمین کا
سانپ کی چھتری کو اگانا اور قَاءَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مرنا۔ قَيْأً تَقْيِئَةً و اَقَاءَ اِقَاءَةً فلانًا ما اكله: کو قے کرانا۔ تَقَيَّأَ تَقَيُّؤًا و اِسْتَقَاءَ اِسْتِقَاءَةً: بتکلف قے کرنا۔ الْقُيَاءُ: قے۔ القُيُوْءُ و القُيُوُّ بہت قے کرنے والا۔ الْمُقَيِّئُ: قے آور دوا۔

قیت: القِيْتَارُ و القِيْتَارَةُ ج قَيَاتِيْرُ، و القِيْثَارُ و القِيْثَارَةُ ج قَيَاثِيْرُ (مو): سارنگی (یونانیہ)۔

قیح: قَاحَ يَقِيْحُ قَيْحًا و قَيَّحَ و اَقَاحَ و تَقَيَّحَ الجرحُ (طب): زخم کا پیپ والا ہونا یا اس سے پیپ بہنا۔ القَيْحُ: پیپ، پیپ جس میں خون کی آمیزش نہ ہو۔

○ مُقَيِّئ جمع مُقَيِّئات: قے آور دوا۔ الجَوْزُ المُقَيِّئ: کچلہ، فلوس ماہی۔

○ قِيْتَار جمع قياتير و قيثار و قيثارة جمع قياثير: چھتارا، قدیم یونانی بربط، لائر

○ مُتَقَيِّح: پیپ دار، پیپ بھرا ہوا، پیپ آلودہ، پیپ خارج کرنے والا۔

قید: ۱۔ قِيْدَ الرجلُ: بیڑی ڈالا جانا۔ قَيَّدَ تَقْيِيْدًا ہٗ: کو بیڑی ڈالنا۔ روکنا ___ ہٗ بالاحسان: کو احسان مند بنانا ___ الکتاب: پر اعراب لگانا ___ الخطَّ: پر نقطے اور اعراب لگانا ___ الحساب: حساب لکھنا ___ الکاتبُ و المتکلمُ: کلام کی غرض اور معنی کو محدود و مقید کرنا تَقَيَّدَ: بیڑی میں ہونا۔ القَيْدُ ج قُيُوْدٌ و اَقْيَادٌ: جانور کے پاؤں میں باندھنے کی رسی وغیرہ، بطور استعارہ کہا جاتا ہے۔ فَرَسٌ قَيْدُ الاَوَابِدِ: تیز رفتار گھوڑا یعنی وہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے وحشی جانوروں کے لئے قید کی مانند ہے کہ وہ ان کو بھاگنے سے روک دیتا ہے۔ قَيْدُ الاَسْنَانِ: مسوڑھا۔ القِيَادُ: رسی جس سے جانور کو کھینچا جائے ___ من الخيل او الابل: سدھا ہوا تابعدار گھوڑا یا اونٹ۔ المُقَيَّدُ (مفع) ج مقاييد: بندھا ہوا اونٹ وغیرہ پازیب پہننے کی جگہ، گھوڑے کے پاؤں کو رسی باندھنے کی جگہ، اونٹ کو باندھنے اور چھوڑنے کی جگہ ___ من الشعر: برخلاف مطلق۔ کِتَابٌ مُقَيَّدٌ: اعراب لگی ہوئی کتاب، کہا جاتا ہے اِمْرَأَةٌ مُقَيَّدَةُ الخِمَارِ: یعنی آزاد عورت۔

۲۔ القَيْدُ و القِيْدُ و القَادُ: اندازہ، کہا جاتا ہے بَيْنَهُمَا قَيْدُ رُمْحٍ اَوْقَادُ رُمْحٍ: ان دونوں کے درمیان ایک نیزہ کی مقدار ہے۔

○ قيد الانسان: مسوڑا، مسوڑے۔ قيد الانساب: شجرہ، شجرۂ نسب۔ من غير قيد او رابطٍ: غیر مشروط، بلا قید، بلا شرط۔ قَلَمُ القيودات: انسان کے انفرادی یا اجتماعی وجود کے نمایاں پہلوؤں (وفات امراض وغیرہ) سے متعلق حقائق و اعداد و شمار درج کرنے کا دفتر، دفتر اندراج عام۔ بقيد الحياة يا على قيد الحياة: زندہ۔ قَيْدَ شَعْرَةٍ: بال برابر لا ...... قيدُ انْمُلَةٍ: نہ ایک انچ نہ ایک ذرہ سا بھی۔ على قيد ساعاتٍ مَعْدُوْدَةٍ: چند گھنٹوں میں على قيد عشرة كيلو متراتٍ: دس کلو میٹر کے فاصلہ پر عن قيد البصر: جو نظر آ سکے۔ المشروع على قيد الدرس: منصوبہ زیر غور ہے۔ المسألة قيدَ البحث: مسئلہ کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ مسئلہ زیر تحقیق ہے۔ رسوم قيدية: بکنگ فیس، رجسٹریشن فیس۔ تقييدُ النسل: برتھ کنٹرول رسم التقييد: رجسٹریشن فیس۔ غیر مُقَيَّد: غیر محدود، بلا پابندی۔ مُلْكٌ مُقَيَّد: آئینی ملوکیت، بادشاہی نظام والا ملک۔

قیر: قَيَّرَ الشيئَ: کسی چیز پر قار ملنا۔ القَارُ و القِيْرُ: سیاہ رنگ کی ایک چیز جس کو کشتی اور اونٹوں وغیرہ پر ملتے ہیں القَيَّارُ: کول تار، لک والا

۲۔ اِقْتَارَ الحديثَ: کی تحقیقات کرنا۔

۳۔ القَيُّوْرُ: غیر معروف النسب، کہا جاتا ہے هٰذَا اَقْيَرُ مِنْ ذَاكَ: یہ اس سے زیادہ کڑوا ہے۔

۴۔ القِيْرَاطُ: دیکھو مادہ ق ر ط۔

۵۔ القَيْرَوَانُ ج قَيْرَوَانَاتٌ: گھوڑوں کا گلہ، فوج کا بڑا حصہ، قافلہ۔

۶۔ القِيْرِ يُوْسُ (ن): ایک پودا۔

○ قَيَّرَ ہ: کولتار بچھانا، رال لگانا۔ قار و قِير: کولتار، رال، قِير، قِيراط جمع قراريط: انچ، اناج ناپنے کا پیمانہ جو ۳۲/۱ اقدح کے برابر ہوتا ہے، لمبائی جوڑائی ناپنے کا پیمانہ جو ۲۴/۱ افدان کے برابر ہے۔ سکہ کا پیمانہ جو ۱۹/۱ درہم کے برابر ہے۔ قَيْرَوان جمع قيروانات: کاروان، قافلہ۔ القيروان: شمالی مشرقی تونس کے شہر کا نام۔

قیس: ۱۔ قَاسَ يَقِيْسُ قَيْسًا و قِيَاسًا: ناز سے چلنا۔

۲۔ قَاسَ يَقِيْسُ قَيْسًا و قِيَاسًا: بھوکا ہونا۔

۳۔ قَاسَ يَقِيْسُ قَيْسًا الطبيبُ قعر الجراحة: زخم کی گہرائی ناپنا صفت قَائِسٌ۔ الشيئَ بغيره او على غيره: کے نمونہ پر اندازہ کرنا ___ قَيْسًا و قِيَاسًا ہٗ: پر سابق ہونا قَايَسَ قِيَاسًا و مُقَايَسَةً بين الامرين: کا اندازہ کرنا ___ الشيئَ بكذا او الى كذا: کا سے اندازہ کرنا ___ الرجُلَ: سے اندازہ کرنے میں مقابلہ کرنا ___ ہ فی كذا: پر میں سابق ہونا۔ اقْتَاسَ الشيئَ بغيره و عليه و اليه: کا دوسری چیز پر اندازہ کرنا تَقَيَّسَ: قبیلہ قیس غیلان سے مشابہ ہونا۔ قبیلہ قیس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یا قبیلہ قیس کے حلیف ہونے یا پڑوسی ہونے یا ان سے ولاء کا تعلق ظاہر کرنا۔ اِنْقَاسَ: اندازہ ہونا۔ اقْتَاسَ الشيئَ: کا اندازہ کرنا کہا جاتا ہے۔ هُوَ يَقْتَاسُ بِاَبِيْهِ: وہ اپنے باپ کی پیروی کرتا ہے۔ القَاسُ والقِيْسُ: اندازہ کہا جاتا ہے۔ بَيْنَهُمَا قَاسُ رُمْحٍ اَوْقِيْسُ رُمْحٍ: ان دونوں کے درمیان ایک نیزہ کے مقدار کا فاصلہ ہے۔ القِيَاسُ (مص) في المنطق: مسائل پر مشتمل قول جن کے تسلیم کر لینے سے ایک دوسرا قول لازم ہو، جیسے ہم کہیں: عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے اس لئے عالم بھی حادث ہے کہا جاتا ہے هٰذَا قِيَاسُ ذَاكَ: یہ اس کے مشابہ ہے۔ القِيَاسِيُّ: مطابق قیاس۔ القَيَّاسُ: بہت قیاس کرنے والا۔ المِقْيَاسُ ج مَقَايِيْسُ: مقدار، جس سے اندازہ کیا جا سکے۔

۴۔ القَيْسَرِيُّ ج قَيَاسِرُ و قَيَاسِرَةُ: بڑا من الابل: بڑا اونٹ۔ قَيْسَارِيَّةُ القيصرية کی تحریف ہے۔

القيصرية: یہ چند شہروں کا نام ہے جو قیاصرہ روم کے ناموں پر رکھے گئے تھے جیسے قیساریہ فلسطین، قیساریہ فلبس وغیرہ۔

قیص: ۱۔ قَاصَ يَقِيْصُ قَيْصًا البطنُ: پیٹ کا حرکت کرنا۔

۲۔ قَاصَ يَقِيْصُ قَيْصًا السنُّ: دانت کا جڑ سے گرنا۔ تَقَيَّصَ الضرسُ: داڑھ کا گرنا یا لمبائی میں پھٹ جانا ___ الحائطُ: دیوار کا جھکنا اور گرنا ___ ت البئرُ: کنویں کا گرنا۔ اِنْقَاصَ الضرسُ: داڑھ کا گرنا یا لمبائی میں پھٹ جانا۔ الحائطُ: دیوار کا جھکنا اور گرنا ___ ت البئر: کنویں کا بہت پانی والا ہونا اور اس کی وجہ سے گرنے کے قریب ہونا۔

○ وقس عليه: وغیرہ وغیرہ قس على هذا قياسًا على ذلك: کی مطابقت میں، کے مطابق، کے مماثل۔ بالقياس الى: کے مقابلہ میں على القياس: معمول کے مطابق بغير قياس: غلط، غیر منطقی۔ اخذ قياسَهُ: کا ناپ لینا۔ متناسب القياس: تناسب میں برابر، حسب حال، مناسب، متناسب۔ قياسٌ عالميٌّ: عالمی ریکارڈ۔ قياسٌ فاسدٌ: غلط استنباط، غلط نتیجہ، مغالطہ، غلط دلیل، باطل استدلال، سفسطہ، ایک مغالطہ آمیز دلیل، غیر صحیح استدلال کی ایک مثال۔ شريط القياس: (کپڑے وغیرہ کا) گز۔ قِيَاسِي: مماثل، مشابہ، نمونہ کے قاعدہ یا معیار کے موافق، منطقی، ہم مرتبہ، مدمقابل۔ رقم قياسي: ریکارڈ (کھیلوں

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

میں) قَیَّاس: ناظر مساحت، مساحت ارض کا ماہر،
تحت المقیاس: معیار سے کم، غیر معیاری۔ مِقیاسُ
التیار: برقی رو کو ناپنے کا آلہ۔ مِقیاسُ
الجُهد: کیمیائی برق پیما۔ مقیاسُ الحرارة: تپش
پیما۔ تھرمامیٹر۔ مقیاسُ الزلزال: زلزلہ پیما، مقیاس
الکهربائیة: برق پیما۔ مقیاسُ الزوایا: پروٹیکٹر،
زاویے ناپنے کا آلہ۔ مقیاسُ المغنطیسیة:
مقناطیسیت پیما۔ مقیاسُ التنفس: تنفس پیما۔
مقاییس الاطوال: لمبائیوں کی پیمائش کا آلہ۔ مقاییس
المسطحات: سطح کی پیمائش، مقاییس السطوح:
بمعنی بالا۔ مقاییس الحجم: حجم کا ناپ مقاییس
الکیل: خشک اور سیال اشیاء اور گنجائش کے پیمانے۔
مقایسۃ ابعاد۔ قَیسَری جمع قَیاسِر و قَیاسِرة:
بڑا، کلاں، عظیم، جسیم، ضخیم۔ قَیسُوریة: فلسطین کی قدیم
بندرگاہ۔ قَیساریة جمع قَیاسِر: عوامی عمارتوں کا ایک
وسیع بلاک جس میں سٹور، ورکشاپ، وغیرہ ہوں۔
مسقف مارکیٹ بازار قیشانی: عمدہ قسم کے چینی یا مٹی
کے روغنی اور نقوش بنائے ہوئے ظروف، چینی کے
برتن۔ قَیصَلانة: ایک قسم کے تازہ پانی کی بڑی مچھلی،
چاند مچھلی، کھارے پانی کی مچھلی جس کا جسم گول چپٹا اور
چاند کا سا ہوتا ہے۔ قَیصر جمع قَیاصِر و قَیاصِرة:
قیصر شہنشاہ العَمَلیة القیصریة: پیٹ اور بچہ دانی
کی دیواروں کو چاک کر کے بچہ کو نکالنے کا عمل جراحی۔
قَیصریة: فلسطین کی ایک قدیم بندرگاہ کا نام۔ (نیز
بمعنی قیساریة)

قیض: قَاضَ یَقِیضُ قَیضًا الشیئَ: کو پھاڑنا۔
الشیئُ: پھٹنا۔ ت السنُّ: دانت کا ہلنا۔
البئرَ: کو کھودنا۔ قِیضَ ت البئرُ: کنویں کا بہت پانی
والا ہونا۔ تَقَیَّضَ ت البیضةُ: انڈے کا ٹوٹنا۔
الحائطُ: دیوار گرنا۔ اِنْقَاضَ الحائطُ: دیوار گرنا۔
ت الرکبةُ او السنُّ: گھٹنے یا دانت کا لمبائی میں پھٹنا۔
اِقْتَاضَ الشیئَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ القَیضُ
(مص): انڈے کا خشک چھلکا۔ القَیضَةُ جمع قِیض:
ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ المَقِیضُ: انڈے کی جگہ۔ بَیضَةٌ
مَقِیضَةٌ: ٹوٹا ہوا انڈا۔ بئرٌ مَقِیضَةٌ: بہت پانی والا
کنواں۔

۱۔ قَاضَ یَقِیضُ قَیضًا الشیئَ بالشیئ: کو کی مانند
بنانا۔ الشیئَ من الشیئِ: کو کے بدلہ میں لینا۔
قَایَضَ قِیاضًا و مُقَایَضَةً فلانًا بکذا: سے کا
مبادلہ کرنا اسی سے ہے بیع المقایضة تقیَّضَ
اباهُ: باپ کے مشابہ ہونا۔ تَقَایَضَ تَقَایُضًا
الرجلان: ایک دوسرے سے تبادلہ کرنا۔ القَیضُ
و القِیاضُ: مساوی، برابر اور مماثل کہا جاتا ہے هذا
قَیضُ او قِیاضٌ لکذا: یہ اس کے برابر اور مماثل
ہے۔ هُمَا قَیضَانِ: وہ دونوں ہم مثل ہیں بیعُ المُقَایَضَةِ
سامان کے بدلے سامان کی بیع یعنی ایک چیز کا دوسری
سے مبادلہ جو قیمت میں اس کے برابر ہو۔

۳۔ قَیَّضَ اللّٰهُ له کذا: کو کیلئے مقدر کرنا۔ اللّٰه فلانا
لفلان: کے پاس لانا۔ تَقَیَّضَ له کذا: کے لئے
مقدر ہونا، سبب ہونا۔

۴۔ القَیضُ و القَیضَةُ: بکری کی گدی پر داغ لگانے کا گرم
کیا ہوا پتھر۔

قیط: القَیطَانُ واحد قَیطَانَةٌ ج قَیاطِینُ: ریشم وغیرہ
کے ریشوں سے بنی ہوئی رسیاں۔

قیظ: قَاظَ یَقِیظُ قَیظًا الیومُ: سخت گرم ہونا۔
و قَیَّظَ و قَیِّظَ القومُ بالمکان: میں گرمی کا زمانہ
گزارنا۔ اقتَاظَ القومُ بالمکان: میں گرمی کا زمانہ
گزارنے کے لئے قیام کرنا۔ ه الشیئُ: کا گرمی
کے زمانہ کے لئے کافی ہونا۔ قَیَّظُوا: لوگوں پر گرمی کی
بارش ہونا۔ قَایَظَ قِیَاظًا و مُقَایَظَةً ه: گرمی کا زمانہ
کے ساتھ گزارنا، سے موسم گرما بھر کا معاملہ کرنا۔
القَائِظُ و القَیِّظُ: سخت گرمی والا۔ یومٌ قائظٌ: سخت
گرم دن قیظٌ قَیِّظٌ: سخت گرمی۔ القَیظُ ج اَقیَاظ و
قُیُوظ: گرمی کی شدت، گرمی کا موسم المَقْیَظِیُّ: جو
گرمی میں پیدا ہوا ہو۔ المُقتَاظُ و المُقَیَّظُ و المَقِیظُ
گرمی کا زمانہ بسر کرنے کی جگہ۔ المَقِیظَةُ (ن): گرمی
تک سبز رہنے والی سبزی۔

قیع: قَاعَ یَقِیعُ قَیعًا الخنزیرُ: سؤر کا آواز نکالنا۔

قیاض: تبادلہ مال، تبادلہ زر، مبادلہ۔ مقایضة: تبادلہ
مال، تبادلہ زر، مبادلہ، تبادلہ مال یا زر کی تجارت،
معاوضہ، مبادلہ کا کاروبار، تبادلہ اجناس کا سودا۔

قیطوس: قیطس سبع البحر مجمع الکواکب جیل
جو فلکی خط استواء پر برج حمل اور برج حوت کے جنوب
اور برج دلو اور النہر کے درمیان واقع ہے۔

قیظ النهار: دن کی گرمی مَقیظ: گرمیوں کی رہائش
گاہ قانظ: بہت گرم، موسم گرما کے وسط کا۔

قیف: قَیَّفَ و تَقَیَّفَ اثرَهُ: کو تلاش کرنا۔ القِیافَةُ:
کھوج، تلاش۔

قیق: قَاقَ یَقِیقُ قَیقًا ت الدجاجةُ: مرغی کا کڑکڑانا۔
القَیقُ (ح): کبوتر کے برابر ایک پرندہ جس کے بازو
مخطط اور دم کالی ہوتی ہے اور بہت بولتا رہتا ہے۔ اور
ابو زریق کہلاتا ہے۔

۲۔ القِیقُ: بے وقوف۔ القِیقَاةُ و القِیقَاءَةُ ج قَوَاقٍ
و قَیَاقٍ و قِیَقٌ: سخت زمین قِیقَیَّةُ البَیضَةِ: انڈے
کے سخت چھلکے کے نیچے کا باریک چھلکا۔

۳۔ القَیقَبُ: وہ لوہا جس کے وسط میں وہ حصہ ہوتا ہے جو
گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے۔ زین کا تسمہ۔ (ن)
ایک درخت۔ جس کی متعدد قسمیں ہیں، بعض قسمیں
باغوں اور عام جگہوں پر آرائش کے لئے لگائی جاتی ہیں
ایک قسم کنڈا میں شکر کی ایک قسم پیدا کرتی ہے جو اس
ملک میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ القَیقَبَانُ: زین،
ایک لکڑی جس سے زین بنائے جاتے ہیں۔

قَیَّفَ ه: کے نقش قدم کی پیروی کرنا، کا بغور مطالعہ کرنا،
جائزہ لینا، کی تحقیق کرنا۔ ه: پر تبصرہ کرنا، تنقید کرنا، نکتہ
چینی کرنا قِیافة: نقش پا پر چلنا، بہروپ، بھیس۔

قَیقَب: میپل ایک درخت جس کی لکڑی فرنیچر، آلات
موسیقی اور فرش بندی میں استعمال کی جاتی ہے، آرائشی
سایہ دار درخت کے طور پر بھی اہم ہے۔

قیل: ۱۔ قَالَ یَقِیلُ قَیلًا و قَایِلَةً و قَیلُولَةً و مَقَالًا
و مَقِیلًا: دوپہر میں سونا۔ ہ قَیلًا: دوپہر کے وقت
دودھ دوہنا اور پینا۔ قَیَّلَ ہ: کو دوپہر میں پلانا۔ عوام
کہتے ہیں۔ قَیَّلَ فلانٌ: جب وہ قیلولہ کرے اس سے
اسم قیلولہ ہے اَقَالَ اِقَالَةً الابلَ: کو دوپہر میں پانی
پلانا۔ تَقَیَّلَ: دوپہر میں سونا۔ ت الابلُ: اونٹوں
کا دوپہر میں پانی پینا۔ القَائِلُ ج قُیَّلٌ و قُیَّالٌ و
قُیُولٌ: دوپہر کو سونے والا القَائِلَةُ: قائل کا مونث،
دوپہر۔ و القَیلُولَةُ: دوپہر میں سونا، دوپہر میں لیٹنا
اگرچہ نیند نہ آئے۔ القَیِّلُ: اونٹنی جس کو دوپہر میں دوہا
جائے۔ و القَیُولُ: دودھ جو دوپہر میں پیا جائے۔
القَیلَةُ و القَیُولَةُ: اونٹنی جس کو دوپہر میں دوہا جائے۔
رَجُلٌ قَیَّالٌ: دوپہر کو دوہی جانے والی اونٹنی کا مالک
دَوحَةٌ مِقیَالٌ: بڑا درخت جس کے نیچے بہت زیادہ
لیٹا جائے۔ المَقِیلُ (مص): قیلولہ کرنے کی جگہ،
دوپہر کو سونا یا لیٹنا۔ المِقیَلُ: دودھ دوہنے کا بڑا برتن
جس میں دوپہر کے وقت دوہا جائے۔

۲۔ قَایَلَ ہ: کو معاوضہ میں دینا، کا تبادلہ کرنا۔ اِقتَالَ شیئا
بشیئ: کو سے تبدیل کرنا۔

۳۔ اَقَالَ اِقَالَةً اللّٰهُ عثر تك: کو گرنے سے اٹھانا، اس
سے ہے الاقالة فی البیع جو بیع توڑنے کے معنی
میں ہے درگزر کرنا۔ البیع: بیع توڑنا۔ ہ من
منصبه: کو اس کے منصب سے سبکدوش کرنا تَقَایَلَ
الرجلان البیع: بیع کو فسخ کرنا۔ اِستَقَالَ اِستِقَالَةً ہ
عثرته: سے لغزش معاف کرنے کو کہنا۔ ہ البیع:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سے بیع فسخ کرنے کو کہنا۔ ـ من منصبه: منصب سے سبکدوشی کی درخواست کرنا۔ الاِقَالَةُ (مص): عقد فسخ کرنا، منصب سے سبکدوشی۔

۴۔ تَقَيَّلَ اباهُ: باپ کے مشابہ ہونا۔ القَيْلُ: حِميرْ کا ایک بادشاہ جو قبیلہ کے پہلے بادشاہوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ سردار

۵۔ تَقَيَّلَ الماءُ: پانی کا جمع ہونا۔

○ اقال اللّٰه عَثْرَتَكَ: اللہ تمہارا جرم معاف کرے۔ قَيْلُولَةَ: دوپہر کو یا قدرے پہلے کیا جانے والا آرام یا آنکھ جھپکی، دوپہر کو تھوڑی سے نیند، مَقِيل: آرام کرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ۔ استقالة: استعفیٰ ریٹائرمنٹ، مُسْتَقِيل: عہدہ سے مستعفی، ریٹائرڈ، برخواست شدہ، برطرف شدہ۔

○ قِيلَة مائية: فتق آبی، نزول الماء: آب نزول جسم کے کیسوی جوف خصوصاً کیسہ فایہ میں خوناب کا ذخیرہ۔

قین: ۱۔ قَانَ يَقِينُ قَيْنًا الحديدَ: لوہے کو برابر کرنا۔ ـ الاناءَ: برتن کو درست کرنا۔ ـ الشيءَ: کو جمع کرنا۔ ـ ت المرأةُ المرأة: کا بناؤ سنگھار کرنا۔ ـ اللّٰهُ فلاناً على كذا: کو پر پیدا کرنا۔ قَانَ يَقِينُ قَيْنًا وقِيَانَةً: لوہار ہونا۔ قَيَّنَ ہُ: کو مزین کرنا ـــ القِيَانَ: عورتوں کی تربیت کرنا اور ادب سکھانا صفت مُقَيِّنٌ۔ تَقَيَّنَ: مزین ہونا۔ النبتُ: اچھا ہونا۔ اِقْتَانَ اقتياناً البنتُ: اچھا ہونا ـــ الرجل: مزین ہونا۔ ـ ت الروضةُ: باغ کا سرسبز و شاداب ہونا۔ القَيْنُ ج قُيُونٌ واَقْيَانٌ: لوہار، ہر کاریگر۔ ـ ج قِيَانٌ: غلام۔ القَيْنَةُ: لونڈی، گانے والی۔ (گلوکارہ)۔ کنگھی چوٹی کرنے والی المُقَيِّنَةُ المُقَيِّنُ کا مونث، کنگھی چوٹی کرنے والی عورت۔

۲۔ القَانُ واحد القَانَةُ (ن): ایک درخت جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ القَيْنَةُ ج قِيَانٌ: ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ک

ك تلفظ الـكـاف حروف تہجی کا بائیسواں حرف، یہ مہموسہ حروف میں سے ہے، حروف ابجد کے لحاظ سے یہ ۲۰ عدد کے قائم مقام ہے ا۔ یہ مخاطب اور مخاطبہ کے لئے ضمیر منصوب اور مجرور کے طور پر مستعمل ہوتا ہے جیسے ضَـرَبَكَ وَكِتَـابُكَ و ضَـرَبَكِ و كِتَـابُكِ وضَرَ بَـكُـمَـا و كِتَـابُـكُمَا و ضَرَبَكُمْ و كِتَابُكُمْ و ضَرَبَكُنَّ و كِتَابُكُنَّ اور کبھی یہ حروف جار کے طور پر مستعمل ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ تشبیہ کے لئے ہوتا ہے جیسے زیـدٌ کالاسد کبھی تعلیل کے لئے جیسے اذکـروا اللّٰه کما هدا کم: (اور اللہ کو یاد کرو کیونکہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے) اور تاکید کے لئے اس صورت میں یہ زائدہ ہو کر آتا ہے جیسے لیـس کمثله شیءٌ: یعنی اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ۳۔ اور کبھی یہ غیر حرف جار کی صورت میں استعمال ہوتا ہے اس صورت میں یہ خطاب کے معنی دیتا ہے۔ اس وقت یہ کبھی اسم اشارہ کے ساتھ مل کر آتا ہے جیسے ذالك اور تــلـك، کبھی یہ ضمیر منصوب منفصل کے ساتھ جیسے ایـاك اور ایـاکما اور کبھی اسماء افعال کے ساتھ مل کر آتا ہے جیسے رویدك

○ كَ: جیسے، کی مانند، کی طرح، تقریباً، قریب قریب کی حیثیت سے۔ کَالْاَوَّلِ: پہلے کی طرح، جیسا کہ شروع میں، جیسا کہ آغاز سے۔ کَهٰـذَا: اتنا، ایسا۔ رجُـل کهذا: ایسا آدمی، اس جیسا آدمی۔ هُمْ کَالْمُجْمِعِیْنَ عـلـی ذلك: وہ اس بارے میں تقریباً متفق، یکدل یا یک آواز ہیں، وہ عملاً اس پر متفق ہیں۔ انا کَمُسْلِمٍ: میں ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ کَـاَنَّ: جیسے، گویا۔ کَـانّی بها: یہ ایسا ہے جیسے میں اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہ وہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کَـذَا: ایسے، اس طرح وغیرہ وغیرہ، اتنا، اس قدر۔ کَـذَا و کَـذَا: فلاں فلاں، اتنا، اس قدر، ایسا ایسا، بِـمـکـانِ کذا و کذا: ایسی ایسی جگہ عُـمْـرُهُ کذا سَـنـوَاتٍ: اس کی عمر اتنے برس ہے۔ کَـذٰلِكَ: اس طرح، یوں، اس حد تک، اتنا، یکساں، برابر، اسی طرح، اسی طور پر، علی هذا القیاس۔ کَمَا: جیسے، بھی، نیز، دوسری طرف بھی، یکساں، برابر، اسی طرح، اسی طور پر۔ کَـمَـا اَنَّ: معاملہ ایسا ہونے کی وجہ سے کَـمَـا لَـو کَـانَ حاضرًا: گویا وہ حاضر ہو۔ مـدینة الکاب: کیپ ٹاؤن (ایک شہر کا نام)۔

کاب: ا۔ کَـئِـبَ ـــ کَابًا و کَأْبَةً و کَآبَةً: غمزدہ ہونا، برا حال ہونا، غم سے شکستہ دل ہونا، صفت کَـئِـبٌ اور کَئِیبٌ مجازاً کہا جاتا ہے، ارضٌ کئبة الوجه: یعنی سیاہی مائل زمین جس طرح غمگین آدمی کا چہرہ ہوتا ہے اَکْاَبَ الرجُلُ: غمگین ہونا۔ الرجُلَ: کو غمگین کرنا۔ اِکْـتَـأَبَ: غمگین ہونا۔ الـکَـأْبَـاء: سخت غم، اِمـرأة کـأباء: سخت غمگین عورت، کہا جاتا ہے۔ مَا اَکْـاَبَهٗ: اس کا غم کس قدر زیادہ ہے۔ الْمُکْتَئِب: غمگین، کہا جاتا ہے "رمادٌ مُکْتَئِبُ اللون" یعنی سیاہی مائل راکھ۔

۲۔ اَکْاَبَ الرجلُ: ہلاکت میں پڑنا۔

○ کَئِبَ ـ کَابًا و کَأْبَةً و کَآبَةً علی: کے بارے میں غمگین ہونا، مغموم ہونا، دل شکستہ ہونا، بددل، افسردہ، ناامید یا مایوس ہونا۔ ـــ ل: کی وجہ سے غمگین، مغموم، دل شکستہ، بددل، افسردہ، ناامید یا مایوس ہونا، سے یا کی وجہ سے پریشان ہونا۔ اَکْـاَبَ هٗ: کو افسردہ کرنا، مایوس کرنا، بددل کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا۔ اِکْـتَـاَب: اداس ہونا۔ ـــ علی یال: بمعنی کَـئِـبَ علی یال۔ کَـأْب، کَآبَة و اِکْتِئاب: غم، غمناکی، الم، رنج، دکھ، ملال، اندوہ، افسردگی، دل شکستی، اداسی، حزن و ملال۔ کَـئِـب و کَئِیب: غمگین، مایوس، دل شکستہ، اداس، بددل، افسردہ، ناامید، غم زدہ، حزین، چڑچڑا، بدمزاج، سنجیدہ۔ مُـکْـتَـئِـب: غمگین، مایوس، دل شکستہ، اداس، بددل، افسردہ، ناامید، غم زدہ، چڑچڑا، سنجیدہ، سیاہ رنگ کا، بھیانک۔

○ کَابل: کیبل (Cable)

○ کابُل: کابل (افغانستان کا دارالحکومت)۔ کـابُلی: کابلی، کابل کا، مہوگنی کی لکڑی (مہوگنی: ایک قسم کی سخت اور سرخ لکڑی جو امریکہ میں پائی جاتی ہے)۔

○ کـابین جمع کَبَـائِـن و کبَـایِن: کیبن (Cabin) کَاتِدرَائِیَة: بڑا گرجا۔

○ کـاثُولیکی: کیتھولک، کیتھولک (کیتھولک مذہب کا ایک رکن)۔

کأج: کَـأَجَ ـــ کَأْجًا الرجُلُ: کی حماقت زیادہ ہونا۔ الکناج: حماقت، نادانی۔

○ کاخِیَة جمع کَوَاخِی: خانساماں، منتظم رسد، مہتمم

کاد: کَـأَدَ ـ کَأْدًا: غمگین ہونا۔ تـکَأَّدَو تکَاءَ دَ الامرُ فلانًـا: پر معاملہ مشکل ہونا۔ ـــ الامر: کی مشقت اٹھانا، اِکْـوَأَدَّ الشیـخُ: بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا۔ الـکـأداء: غم، سختی، پرہیز، تاریک رات، عـقبَةٌ کَـأْداءُ و کَؤُودٌ: دشوار گزار گھاٹی جس پر چڑھنا سخت مشکل ہو۔ الـکُـؤَداء: غمی یا تھکاوٹ کی وجہ سے ٹھنڈی سانس۔

○ کاد: جنس کاجو۔

○ کادهندی: کاجو کا درخت۔

○ عَقَبة کَأْداء یا عقبة کَؤُود: ناقابل تسخیر رکاوٹ۔

○ کـادِر: (فوجی یونٹ، حکومتی ایجنسی، کارپوریشن وغیرہ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کا) ڈھانچہ، عملہ، بنیادی تنظیم، بنیادی یونٹ، بنیادی بحری جہاز کا عملہ۔

○ کار جمع اَلکارات: کام، پیشہ، اَہلِ کار: کاریگر، دستکار۔ اَرہلُ الکارات: کاریگر، دستکار لوگ۔ عَداوۃ الکار: پیشہ ورانہ حسد، تجارتی رقابت۔

○ کارتون: گتہ، جمع کارتونات: گتے کا ڈبہ۔

○ کاردِینال: کارڈینل: ستر رومن کیتھولک پادریوں میں سے ایک جو نئے پاپائے اعظم کے انتخاب کیلئے اکٹھے ہوتے ہیں۔

○ کارِیکاتورِیۃ: کارٹون: کسی کے مضحکہ خیز پہلو کو اور نمایاں کرنے والا خاکہ یا ایسی نقل۔

○ کاز (غاز کے معنی میں) گیس۔

○ کازِینو جمع کازینوھات: رقص گاہ، کاسینو۔

کاس: الکاس ج کُؤوس و اَکؤُس و کاسات و کِئاس: پیالہ (مؤنث) شراب کا س یا کاسُ الزھرۃ (ز): گل کا غلاف جو کبھی ایک دوسرے سے دور اور کبھی باہم ملے ہوئے اجزاء سے بنتا ہے۔ یہ کاسیات کہلاتے ہیں اور غالباً یہ کاس پتوں کی طرح سبز ہوتا ہے۔ الکاسۃ: عام لوگ اس کو کاسۃ کہتے ہیں بمعنی پیالہ ہے۔ الکاسیۃ: اس کے لئے "الفصلۃ" کا لفظ ملاحظہ فرمائیں۔ کاسیۃُ النور (ن): ایک عمدہ خوشبودار پودا اصل گہوارہ شمالی امریکا ہے۔ خوبصورتی کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔ کاسیات النور (ن): خوشبودار پودے۔

○ کَاس (مؤنث) جمع کُؤوس و کِئاس و کاسات: پیالی، پیالہ، کپ، جام، گلاس، (پینے کا) ساغر، (عشائے ربانی کا) ساغر، پھول کا کٹورا، مندگل۔

○ کاساتا: Cassata اٹلی کی آئس کریم۔

کاص: کَاصَ ۔ کَاصًا: کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا ۔ الشیئَ: کو بہت کھانا یا پینا۔ محاورہ: کاصُنا عِندَہٗ مِنَ الطَّعامِ مَاشِئنا یعنی ہم نے اس کے پاس سے جو کچھ چاہا خوب کھایا۔

○ کاغِط: کاغذ (مراکشی لفظ)

○ کاف: حرف (ک)۔

○ کَافُور: کافور، کپور، کافور کا درخت، نیلی گوند۔

کاك: ۱۔ کَأکَأ۔ کَأکَأۃ: کمزور ہونا۔ بزدلی دکھانا، پیچھے ہٹنا۔ تکَأکَأ: بزدلی دکھانا، پیچھے ہٹنا۔ ۔ فی کلامہ: گفتگو میں عاجز آجانا، بات نہ کرسکنا۔ الکاکاء: زبردست بزدلی، بھاگتے وقت چور کی دوڑ۔

۲۔ تکَأکَأ القومُ قوم کا اکٹھے ہوجانا۔

۳۔ المُتکَأکِئی: پست قد۔

○ کاکَیج و کاکَنج: آلو بالو، شاہ دانہ (پھل)۔

کال: کَالَ ۔ کَالاً و کِلَۃً و کُوُولاً: قرض کے بدلے میں قرض خریدنا یا بیچنا جیسے تمہارا قرض کسی کے ذمہ ہو تو تم اپنے قرض کو اس کے قرض سے بیچ لو۔

○ کالو جمع کالوھات: گٹا، گوکھرو۔

○ کالون: گیلن۔ کالُون و کَیلُون جمع کَوالین: (دروازوں کا) قفل، تالا۔ کوالینی: تالے والا، قفل ساز۔

○ کَامبُودِیا: کمبوڈیا (ایک ملک کا نام)

○ کَامبِیو: شرح مبادلہ (اٹلی زبان کا لفظ)

○ کامِخ و کامَخ جمع کَوامِخ: سرکا کی چٹنی، اچار، مخلوط اچار

○ کَامِیرا: کیمرہ Cemera

○ کامیہ: ابھروان نقش والا نگینہ۔

○ سوق الکانتو: لنڈا بازار۔

کان: کَانَ ۔ کَانًا ۔ الرجلُ: سخت ہونا۔ کَأنَّ: یہ حرف مشبہ بالفعل ہے جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہ درج ذیل معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ۱۔ تشبیہ جیسے کَأنَّ زیدًا اَسَدٌ (زید تو گویا شیر ہے)۔ یہ اکثر اس معنی میں مستعمل ہے۔ ۲۔ شک و ظن جیسے کَأنَّ زیدًا قائِمٌ شاید زید کھڑا ہے۔ ۳۔ تقریب جیسے کَأنَّکَ بِالشتاءِ مُقبلٌ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے جاڑا آ پہنچا ہو۔ بنا کَأنِّی بِكَ تنحطُّ: یوں لگتا ہے جیسے تم زوال میں آگئے ہو پہلی مثال میں کاف اور باء زائد ہیں الشتاء کأن کا اسم اور مقبل خبر ہے اور دوسری مثال میں باء اور یاء زائد ہیں کاف کأن کا اسم اور جملہ تنحط اس کی خبر ہے۔

○ کانتین: کنٹین (Canteen)

○ کاھِنۃ جمع کَواھِن کِھایَۃ: (تیونس کے ایک انتظامیہ ضلع کا) چیف آفیسر، ڈپٹی، نائب، ماتحت، چھوٹا (Sub)

○ کَاوتشُق: ربڑ

کای کَأیٌ یَکأَی کَأیًا الرجُلُ: گفتگو سے تکلیف پہنچانا۔ اکای عنہ: کو ناپسند کرنا۔ کَأیِّنْ یا کَأیٍّ: یہ اسم کاف تشبیہ اور ای سے مرکب ہے یہ بھی کم خبریہ کی طرح عموماً کثرت اور بہتات کے معنی دیتا ہے جیسے کَأیٍّ من رجلٍ یا کای رجلاً رأیتُ (میں نے بہت سے افراد دیکھے) لیکن یہ لفظ استفہام کے معنی میں بہت کم استعال ہوتا ہے جیسے حضرت ابن مسعود نے حضرت ابن بن کعب سے پوچھا تھا۔ "کَأیِّن تَقرَءُ سورۃَ الاحزاب" (تم سورۃ احزاب کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟) انہوں نے جواب دیا، تہتر مرتبہ)۔

کب: ۱۔ کَبَّ ۔ کَبًّا الاناءَ: برتن کو اوندھا کردینا ۔ الرَّجُلَ عَلیٰ وَجْھِہٖ ولِوَجْھِہٖ: کو منہ کے بل پچھاڑ دینا۔ ۔ الشیئُ: بھاری ہونا۔ کَبَّبَ: کباب بنانا۔ اَکبَّ فلانًا: کو پچھاڑ دینا ۔ الرجُلُ: پچھڑنا، گر جانا۔ تکَبَّبَتِ الابل: اونٹ کا بیماری وغیرہ کی وجہ سے گر جانا۔ الکُبَّۃُ ج کُبَبٌ: بوجھ کہا جاتا ہے۔ اَلقَی عَلَیہِ کُبَّتَہٗ: اس نے اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا۔ الکَبابُ: کباب (جو آگ پر بھون کر پکایا جاتا ہے)۔ المُکِبُّ والمِکبَاب: زمین کی طرف بہت زیادہ دیکھنے والا۔

۲۔ کَبَّ ۔ کَبًّا الغَزْلَ: کاتے ہوئے سوت کا گولہ بنانا۔ اَکبَّ عَلَی العلمِ وغیرہ: پوری لگن کے ساتھ علم وغیرہ میں مشغول ہونا۔ ۔ علیہ: کسی کو بچانے کے لئے اس پر بچھ جانا۔ تَکَبَّبَ: کپڑے میں لپٹنا۔ ۔ الرمل اوالشجر: ریت یا درخت کا تہ بتہ ہونا۔ تَکَابَّ القومُ علی الشیئ: قوم کا کسی چیز پر رش کرنا۔ اِنکَبَّ علی امرٍ: کسی کام میں محو ہوجانا۔ الکُبَّۃُ ج کُبَبٌ: بہت بڑے اونٹ، گھوڑوں کی جماعت، بھیڑ، دو گھوڑوں کے درمیان ٹکراؤ، لڑائی میں حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے کانت لھم کَبَّۃٌ فی الحرب انہوں نے لڑائی میں بڑا شور شرابہ کیا، گوشت اور گندم کے آٹے کے چھان کو باریک پیس کر اور ملا کر کچا، یا بھون کر یا پکا کر کھایا جانے والا کھانا۔ کُبَّۃُ الغزل او الخیط: کاتے ہوئے سوت یا دھاگے کا گولہ۔ کُبَّۃ الرجیلۃ: (ط) گوشت کے بغیر آٹے کے چھان کو بھون کر کھایا جانے والا کھانا (عامی لفظ)۔ [illegible] لوگوں کی جماعت، بھیڑ، گھوڑوں کے درمیان ٹکراؤ۔ جنگ میں (حملہ کہا جاتا ہے۔ کانت لھم کبۃ فی الحرب: انہوں نے جنگ میں شور و غل کیا۔ کَبَّۃ الشتاء: سردی کی یکدم آمد اور شدت۔ کبۃ النار: آگ کا بڑا حصہ۔ الکُبَابُ: چپکنے والی مٹی۔ تہ بتہ ریت، بہت سے اونٹ اور بکریاں۔ المِکَبّ ج مِکَبَّات و مَکَابّ: دھاگہ یا سوت لپیٹنے والی ریل یا گولہ۔

۳۔ الکُبّ: ایک قسم کی کڑوی گھاس

۴۔ کَبْکَبَ: کَبْکَبَۃً و کِبْکِبَۃً۔ الشیئَ: کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، پچھاڑنا، پست زمین پر پھینکنا۔ ۔ المواشی الشاردۃ: بدک کر بھاگے ہوئے مویشیوں کو اکٹھا کرنا۔ تَکَبْکَبَ القومُ: اکٹھے ہونا۔ فی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نیانہ کپڑے میں لپٹنا۔الکُباکِب ج کَباکِب اورالـکُـبُـکُـبُ گٹھے بدن والا۔الـکُـبُـکُـب والکِبْکِب ایک قسم کا کھیل۔الکبکبۃ: تثلیث الکافین کے ساتھ اور الکُبْکُوب و الکُبْکُوبَۃ لوگوں کی یا گھوڑوں کی جماعت۔الـکُـبْـکُـوب ج کَباکِیب۔ کبۃ الغزل دھاگے کا لچھا۔(عام لوگوں کی زبان میں)

○ کَبَّ ـُ کَبًّا لوجهه یا علی وجهه کو جھکانا، منہ کے بل گرانا۔ ہ کو الٹ دینا، کا خاتمہ کرنا، کو ختم کرنا، ڈگمگا کر گرانا، درہم برہم کر دینا، کو الٹنا، الٹا کرنا، اوندھا کرنا، پلٹنا۔ ہ (سیال چیز) کو انڈیلنا۔کَبَّبَ ہ کو گولا بنانا، کا ڈھیر بنانا، کو ڈھیر کرنا۔اَکَبَّ ہ کو نیچے گرانا، جھکانا۔ خود کو نیچے گرانا، سجدہ کرنا۔ علی پر جھکنا، تکیہ لگانا، خود کو کے لئے وقف کرنا، نذر کرنا، پر کامل توجہ کرنا۔اِنکَبَّ علی وجهه: منہ کے بل گر پڑنا۔علی: پر جھکنا، تکیہ لگانا، پر کامل توجہ دینا، کے لئے خود کو وقف کرنا، نذر کرنا۔ خود کو نیچے گرانا، خود کو جھکانا، الٹنا، انڈیلا جانا، ڈگمگا کر گرنا، گرنا، الٹا ہونا، اوندھا ہونا، چت ہوجانا، ڈھیر ہوجانا۔اِنکَبَّ علی قدمیه: کے قدموں پر گرنا، کے سامنے جھکنا۔کَبّ: جبیں سائی، سجدہ ریزی، زمین پر منہ کے بل پڑ جانا، زوال، بربادی، خاتمہ، الٹ پلٹ، تہہ بالا کر دینا، جھکنا، جھکاؤ۔کُبَّۃ ج کُبَب: گولا، تاگے کا گولا، انٹی، لچھا دریل، سوت کی انٹی، کوفتہ۔کَباب: کباب، تلا ہوا یا بھنا ہوا گوشت، کوفتہ۔کباب صینی: چینی کباب (پھل)۔کَبابۃ و کُبابۃ: چینی کباب (پھل) کُبَیبۃ: ایک قسم کا کوفتہ، ایک قسم کا برگر کِبَّۃ بطاطس: قیمہ کا سموسہ، قیمہ اور آلو کا سموسہ۔ کُبّایۃ ج کبایات: گلاس (پینے کا)۔مَکَبّ ج مَکَبّات و مَکَابّ: دھاگے کا گولا، سوت کی انٹی، دھاگے کی ریل، دھاگے کی نلکی، ریل۔اِکباب علی کے لئے نذر، وقف، میں مشغولیت، کا تعاقب، کی جستجو۔مُکِبّ علی: کیلئے وقف، نذر کیا ہوا، کا خوگر، کا عادی، میں منہمک، ڈوبا ہوا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے، میں دل و جان سے، پوری توجہ سے مشغول۔مُنکَبّ علی: مندرجہ بالا معنی میں۔

○ کبارِیہ ج کباریهات: طعام خانوں کا تفریحی رقص و سرود۔

کبت: ا۔کَبَتَ ـِ کَبْتًا ہ: کو پچھاڑنا۔کہا جاتا ہے کبتہ لوجهه: کو پچھاڑنا، ہلاک کرنا۔ذلیل ورسوا کرنا، پھیرنا، توڑنا، مطیع کرنا (کہا جاتا ہے: کبت اللہ العدوَّ: اللہ دشمن کو ذلیل کرے) توہین کرنا، ذلیل کرنا، غصہ سے رد کرنا، کہا جاتا ہے: کَبَتَ فلانٌ غیظه فی جوفه: (فلاں نے اپنے غصے کو اندر ہی اندر ضبط کرلیا) یعنی اظہار نہیں کیا۔اِنکَبَتَ پچھاڑا جانا، رسوا ہونا، پھرنا، ٹوٹنا۔المَکبُوت: غم سے بھرا ہوا۔

۲۔الکَبُّوت: بڑی ساری چادر، کمبل جسے سردیوں میں حرارت کیلئے اوڑھا جاتا ہے۔ ہمعصر اہل زبان نے اس پر معطف: کا لفظ بولا ہے (یہ فرانسیسی لفظ ہے)۔

○ کَبَتَ ـِ کَبْتًا ہ: کو کچل ڈالنا، دبا دینا، زیر کرنا، ہلکا کرنا، دھیما کرنا، قابو میں کرنا یا رکھنا۔کَبَتَ غَیظه فی جوفه: غصہ ضبط کرنا۔انفاسَهُ: کی سانس پھلا دینا۔کَبُّوت ج کبابیت: کلاہ، ٹوپی، پیراکی کی ٹوپی، ٹوپی دار لبادہ، کار یا گاڑی کا بالائی حصہ۔

○ کُبْتُلة: ڈھیر، ڈلا، موٹا ٹکڑا، غلّہ، گولی، گیند [illegible] گول۔

○ کُبْتن: کیپٹن (فوجی عہدہ)

کبث: کَبِثَ [illegible] اللحم: گوشت کا خراب ہوکر بدبودار ہو جانا صفت کَبِیث [illegible] السفینة: کشتی کو زمین کی طرف کھینچ کر لانا، ایک کشتی کا سامان دوسری کشتی میں رکھنا۔

کبح: کَبَحَ [illegible] الدابة باللجام: جانور کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا [illegible] عن الحاجة: کو ضرورت سے باز رکھنا [illegible] بالسیف: کو تلوار سے مارنا [illegible] الحائط [illegible]: دیوار کا تیر کو واپس کرنا اور اندر نہ گھسنے دینا۔ [illegible] الدابة باللجام: چوپایہ کو لگام کھینچ کر روکنا۔

۲۔ [illegible]: ایک دوسرے کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا۔

۳۔کبح النهار: بلند ہونا صفت کبح و متکبح۔

۴۔الکبح ج کوابح: بدشگونی اور بدفالی کی چیز بعیر اکبح: سخت اونٹ۔

○ کَبَحَ ـَ کَبْحًا ہ: کو روکنا، کی روک تھام کرنا، کو قابو میں رکھنا ـ ہ عن: کو سے روکنا۔کبح جماحه: کی عدول حکمی کو قابو میں رکھنا، کسی شخص یا چیز کو دبانا، کچل دینا۔کبح: روکنا، کنٹرول کرنا، پابندی، خاتمہ۔مکبح: بریک (گاڑی وغیرہ کا)

کبد: ا۔کَبَدَ ـُ کَبْدًا ہ: کے جگر پر مارنا۔الامرَ: کسی کام کا ارادہ کرنا۔کَبِدَ ـَ کَبَدًا و کُبِدَ: جگر کی تکلیف کی شکایت کرنا صفت مَکبُود۔کَبَدَتِ الشمسُ السماءَ: سورج کا آسمان کے درمیان میں پہنچ جانا۔تکبَّدَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہوجانا حتی کہ [illegible]

الامرَ: کا قصد کرنا۔الفلاةَ: کے درمیان یا بڑے حصے کا قصد کرنا۔ المکانَ: جگہ کے درمیان میں پہنچنا۔ [illegible]ت الشمسُ السماءَ: سورج کا آسمان کے درمیان میں پہنچنا۔الکِبْد ج اکباد و کُبُود من الامعاء: جگر، کلیجہ۔سُودُ الاکباد: دشمن۔ (جمع) الکبد من الامعاء (ع ا) جگر، کلیجہ (مذکر و مونث)۔من السماء: آسمان کا درمیان۔الکبد ج اکباد و کبود: پسلی، کمل پیٹ، کسی چیز کا درمیان حصہ، کسی چیز کا بڑا حصہ۔من الامعاء (ع ا) جگر، کلیجہ۔کبد الارض: زمین کی کانوں کی چیزیں مثلاً سونا چاندی وغیرہ۔کبد القوس: کمان کے علاقے کے دونوں طرف کا درمیانی حصہ، محاورہ بولا جاتا ہے [illegible] لوگ علم وغیرہ حاصل [illegible] ہیں [illegible] پیٹ کا بڑا [illegible] درمیانی حصہ [illegible] آسمان کا درمیانی حصہ [illegible] جگر کی تکلیف [illegible] بڑے جگر والا، جس شخص کی [illegible] جگر والی [illegible] درمیان سے موٹا، آہستہ رفتار (ح) پرندہ [illegible] درمیان کا حصہ بڑا ہو، وہ کمان جس کا دستہ پوری ہتھیلی سے پکڑا جا سکتا ہو [illegible] من السماء: آسمان کا وسط [illegible]: کائی سے مشابہ ایک پودا جو تر جگہوں پر اُگتا ہے دھوپ پڑنے پر اس کے پتے جگر [illegible] جیسے دکھائی دیتے ہیں۔

۲۔کَبَدَ [illegible] لوگوں کا سردی کی تکلیف [illegible] کسی کام میں تکلیف برداشت کرنا [illegible] مسافر کا رات کی تکلیفیں اور خوف برداشت کرتے ہوئے سفر جاری رکھنا [illegible]: مشقت کی برداشت۔الکَبَد: مشقت [illegible] چکی، (کیونکہ اس کو چلاتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔)

۳۔الکبد: ہوا۔الکبدۃ: محبت کا مہرہ۔الکَبَّاد: چکوترہ (عامی زبان میں)۔

○ کَبَدَ ـِ کَبْدًا ہ: (تکلیف، نقصان وغیرہ) کا کسی کو بری طرح متاثر کرنا، ایذا دینا، تھکا دینا۔کَبَّدَہ ہ: کو نقصان وغیرہ پہنچانا۔کابد ہ: کو برداشت کرنا۔تکبّد ہ: (نقصانات، سختیاں وغیرہ) برداشت کرنا، جھیلنا، کو کرنے کی جسارت پر مجبور ہونا، کے خطرہ میں ہونا، (نقصانات) اٹھانا۔کبد، کبد اور کبد: (مذکر و مونث) جمع کباد و کبود: جگر، کلیجہ، دل، اندر،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

درمیان وسط، كَبَّاد و كُبَّاد کئی ترش پودوں کا نام
كَبّاد چکوترا، چکوترے کا پیڑ۔

كبر ا۔ كَبِرَ ــُ كِبَرًا۔ فلانًا بالسّنّ: سے عمر میں بڑا ہونا۔ كَبِرَ ــَ كِبَرًا و مَكْبِرًا فِي السِّنّ: عمر رسیدہ ہونا۔ كَبُرَ ــُ كِبَرًا و كُبْرًا و كَبَارَةً في القدْر: بڑا ہونا اور جسیم ہونا صفت كَبِير و كُبَّار و كُبَار ۔ عليه الامرُ: پر کام کا مشکل ہونا، سخت ہونا اور بھاری ہونا۔ كَبَّرَ تَكْبِيرًا و كِبَّارًا اللهَ اکبر کہنا۔ الشيئَ: کسی چیز کو بڑا بنانا۔ كَابَرَهٗ: سے دشمنی رکھنا، پر غلبہ حاصل کرنا۔ ــــ ہٗ عَلَىٰ حَقِّهِ: کے حق کا انکار کرنا۔ كُوبِرَ الرجُلُ فِي مالِهِ: ظلم اور زبردستی سے کسی کا مال لے جانا صفت مُكَابَر عَلَيْهِ۔ أَكْبَرَ الأمرَ: کام کو بڑا اور عظیم سمجھنا ــ الرجُلَ: کو بڑا شمار کرنا۔ کی تعظیم کرنا۔ تَكَبَّرَ: مغرور ہونا، تَكَابَرَ: تکبر کرنا ــ الرجُلُ: اپنے آپ کو بڑا اور بلند مرتبہ ظاہر کرنا۔ استكبر: تکبر کرنا۔ ــ الامرَ: کام کو بڑا سمجھنا۔ الكَابِر: بڑا، جد امجد، بلند شان، سردار۔ الكُبْر: کسی چیز کا بڑا حصہ، شرافت، بلندی۔ کہا جاتا ہے۔ هُوَ كُبْرُ قَوْمِهِ و كُبْرُهُمْ و كُبْرَتُهُمْ: وہ ان کا بڑا بوڑھا ہے یا نسب میں ان کے زیادہ قریب ہے اس میں واحد جمع مذکر مونث سب برابر ہیں۔ الكِبْر: کسی چیز کا بڑا حصہ، شرافت اور بلندی۔ تکبر، بڑا گناہ، کفر و شرک۔ الكِبَر و الكَبْرَة: عمر میں بڑا ہونا، محاورۃً بولا جاتا ہے۔ عَلَاهُ الكِبَرُ او عَلَتْهُ كَبْرَةٌ: جب وہ بوڑھا ہو جائے۔ الكِبْرَة: بڑھاپا، گناہ کبیرہ، کہا جاتا ہے۔ هُوَ كِبْرُ قَوْمِهِمْ: یعنی وہ ان کا بڑا ہے یا نسب و قرابت میں زیادہ قریب ہے اور کہا جاتا ہے۔ فلان كِبْرَةُ ولدِ ابيه: (فلاں اپنے باپ کی اولاد میں اخیر ہے) اس میں واحد جمع، مذکر مونث سب برابر ہیں۔ الكُبَّار و الكُبَّار: بڑا۔ الكَبِير: اللہ تعالیٰ کا ایک نام۔ جمع كِبار و كُبَرَاء: بڑا، استاذ، رئیس۔ الكَبِيرَة ج كَبِيرات و كَبَائِر: الكبير کا مونث، گناہ کبیرہ۔ الأكْبَر ج أكَابِر و أكْبَرُون: اسم تفضیل کہا جاتا ہے الأَكْبَر و الأَصْغَر یعنی بڑا اور چھوٹا (اور کہا جاتا ہے۔ اتَانِي فلان أكْبَرَ النهار (فلاں میرے پاس دن چڑھے آیا)۔ أكَابِرُ القوم: قوم کے شریف لوگ۔ الكُبْرَى ج كُبَر و كُبْرَيَات۔ الاكبر کا مونث کہا جاتا ہے هذه الجارية من كُبْرَى بناتِ فلانٍ (یعنی یہ فلاں کی لڑکیوں میں سے بڑی بیٹی ہے۔ الكِبْرِيَاء: بزرگی، غرور۔ المَكْبِر، و المَكْبَرَة و المَكْبُرَة: عمر رسیدہ ہونا۔ المُكَبِّرَة (ف) باریک چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے والا آلہ، دوربین۔ المَكْبُورَاء: اسم جمع بمعنی كُبَرَاء

٢۔ الكَبَر ج كِبَار و أَكْبَار طبلہ (فارسی لفظ) الكَبَر یا الأَصَف (ن): ایک چھوٹا سا خاردار درخت جس کے پھول سفید رنگ کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وسطی خطوں میں پائے جاتے ہیں اس کے پھولوں اور پھلوں کو ملا کر پیس کر سفوف تیار کی جاتی ہے جسے عامی زبان میں الكُبَّار کہا جاتا ہے۔ الكُبْرَان ج كَبَارِين: سینہ بند پر پہنا جانے والا لباس (عامی لفظ ہے) الإِكْبِر و الأَكْبَر: خشک حلوے کی مانند ایک میٹھی چیز جسے شہد کی مکھی شہد اور موم کے علاوہ جمع کرتی ہے۔

٣۔ كَبْرَتَ الشيئَ: پر گندھک ملنا الكِبْرِيت (ك): گندھک، سرخ یاقوت، سرخ سونا، کہا جاتا ہے ذَهَبٌ كِبْرِيتٌ او فِضَّةٌ كِبْرِيتٌ: یعنی خالص سونا یا خالص چاندی۔

۞ كَبُرَ ــُ كُبْرًا ہٗ ب: سے ۔ سال بڑا ہونا، سے سال عمر میں بڑا ہونا۔ كَبُرَ ــُ كُبْرًا و كِبَرًا و كَبَارَةً: بڑا، چوڑا ہونا یا ہو جانا، بڑھنا، زیادہ بڑا یا چوڑا ہو جانا، مشہور ہو جانا، اہمیت حاصل کر لینا، اہم ہو جانا۔ ــــــ عن: سے ناقابل یقین حد تک بڑا یا چوڑا ہونا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ ــــ نہایت تکلیف دہ ہونا، دوبھر ہونا، پریشان کن ہونا، ظالمانہ ہونا، ــ علی: کیلئے ناقابل برداشت معلوم ہونا، نہایت مشکل یا سخت ہونا، کو ایسا معلوم ہونا کہ وہ اسے دور نہ کر سکے گا۔ كَبَّرَ ہ کو زیادہ بڑا کرنا، بڑا کرنا، بڑھانا، چڑھانا، عظمت عطا کرنا، پھیلانا، وسیع کرنا، لمبا کرنا، میں اضافہ کرنا، کو چوڑا کرنا، بلند کرنا، میں شدت پیدا کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، میں مبالغہ کرنا، کو بانس پر چڑھانا، کو بگاڑنا، زیادہ سنگین بنانا، کو بدتر بنانا، ــ ہ/ ہ کی تعریف کرنا، کی حمد کرنا، حمد و ثنا کرنا، کو سرفراز کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا۔ كَابَرَہ: سے کبر و نخوت، حقارت یا تذلیل کے ساتھ سلوک یا برتاؤ کرنا، سے سبقت لیجانا چاہنا، سے بازی لیجانے کی کوشش کرنا، سے بہتر کام کرنے کی جدوجہد کرنا یا اس کے لئے اس کا مقابلہ کرنا، سے مقابلہ کرنا، ـــ ہ/ ہ کی مخالفت کرنا، مدافعت کرنا، تردید کرنا۔ ـــ ہ: سے قطع تعلق کرنا، کا بدلہ لینا، کی قانون شکنی کرنا، کی خلاف ورزی کرنا۔ ـــ ہٹ دھرمی سے اپنی رائے پر اصرار کرنا۔ اَكْبَرَ ہ کو بڑا، اہم یا خوفناک سمجھنا۔ ـــ ہ: کی تعریف کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا، کو بڑھانا، کیلئے احترام کا مظاہرہ کرنا، کے لئے مودب ہونا۔ ـــ ہ کو سراہنا، پسند کرنا، بنظر استحسان دیکھنا۔ تَكَبَّرَ و تَكَابَرَ مغرور و متکبر ہونا، شیخی بگھارنا، اینٹھ کر چلنا، رعب جمانا۔ ــ علی: کے سامنے حد سے زیادہ مغرور ہونا، کو اپنی مرضی کے تابع کرنے والا ہونا۔ اِسْتَكْبَرَ ہ کو بڑا یا اہم سمجھنا۔ ــ علی: سے تکبر کرنا، اکڑ یا ہیکڑی کا مظاہرہ کرنا۔ كِبْر: بڑائی، وسعت، وسعت، حجم، ضخامت، جسامت، اہمیت، بزرگی، عظمت، آن بان، وقار، درجہ، رتبہ، حیثیت، نیک نامی، شہرت، شرافت، نجابت، غرور، تکبر، گستاخی، دلیری، بددماغی۔ كُبْر: بڑائی، بزرگی، عظمت، وسعت، حجم، ضخامت، جسامت، پھیلاؤ، کشادگی، فراخی، قوت، طاقت، جلال، شان، کبریائی، شہرت، درجہ، رتبہ، حیثیت، نیک نامی، شرافت، نجابت، بڑا حصہ، کثیر یا بڑی تعداد، كِبَر: بڑائی، وسعت، قد و قامت، ڈیل ڈول، بزرگی، برتری، ناموری، عمر رسیدگی، كَبْرَة عمر رسیدگی۔ كَبِير جمع كِبَار و كُبَرَاء: بڑا، کافی بڑا، قدآور، جسیم، بھاری، بڑی جسامت کا، وسیع، فراخ، گنجائش والا، لمبا چوڑا، بڑے رقبہ کا، محیط، جامع، اہم، معتدبہ، کثیر مہیب، عظیم، پہاڑ کا پہاڑ، طاقتور، زور آور، بارسوخ، ذی اثر، صاحب اختیار، ممتاز، اہم، عمر رسیدہ۔ كَبِيرُ أُمَرَاءِ البحار: امیر البحر، بحریہ کا اعلیٰ افسر۔ كَبِيرة الخدَم: گھریلو خادموں کی سربراہ (عورت) كَبِيرُ الاساقفة: لاٹ پادری، اسقف اعظم۔ كَبِيرُ السِن: عمر رسیدہ۔ كَبِيرُ القُضَاة: چیف جسٹس۔ چیف مجسٹریٹ ابو كبير: ہنگ كلُّ صغيرة و كبيرة: ہر مفرد تفصیل كِبَار الضُّبَّاط: سینئر افسران كبار المُوَظَّفِين: سینئر عہدیداران۔ كِبَارُ الهَيئَات: پبلک کارپوریشنوں کی سرکردہ شخصیات كَبِيرَة جمع كبيرات و كبائِر و كُبَر: بڑا گناہ، سنگین بدعنوانی، نہایت برا جرم۔ كُبَّار و كُبَار: بہت بڑا، جسیم۔ كِبْرِيَاء: آن بان، شان کبریائی، کرّوفر، عظمت، غرور، تکبر، تمکنت، زعم، بددماغی۔ أَكْبَر جمع أَكْبَرُون و أَكَابِر، م كُبْرَى جمع كُبْرَيَات: زیادہ بڑا، زیادہ وسیع، زیادہ عمر رسیدہ، سینئر مرتبہ کا المفتي الأكبر: مفتی اعظم۔ سوریا الكُبْرَى: عظیم تر شام أكَابِرُ القوم: قوم کے رہنما الاكبر و الأَعْيَان: رؤساء و ممتاز لوگ۔ تكبير: بڑا کرنا، توسیع کرنا، بڑھوتی، بڑھا چڑھا کر دکھانا، عظمت، سرفرازی، زور دار بنانا، شدید کرنا، پھیلاؤ، بڑھاوا، مبالغہ، تعلی، غلو، حرف مبالغہ (گرامر) تعریف، حمد و ثناء، اللہ اکبر اونچی آواز میں کہنا۔ مُكَابَرَة: تکبر، خود بینی، غرور، نخوت، بے جا غرور، خود پسندی، شان و

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

شکوہ، ضد، ہٹ دھرمی، خودسری، خودرائی، اِکبار: تحسین، مدح، پسندیدگی، احترام، ادب، لحاظ، تعظیم، تَکَبُّر و تکابر: غرور، تکبر، خود بینی، گستاخی، بددماغی، مُکَبِّر جمع مُکَبِّرات: آلہ (جہیر الصوت) بلندگو۔ مُکَبِّر الصَّوت یا مُکَبِّرٌ صوتیٌّ: لاؤڈ سپیکر۔ نَظّارَۃ مُکَبِّرۃ: محدب شیشہ، کلاں نما۔ مُکَبِّرۃ جمع مُکَبِّرات: محدب شیشہ، کلانما۔ مُکَبَّر: بڑا کیا ہوا، بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہوا۔ صورۃ مُکَبَّرۃ: بڑی کی ہوئی تصویر۔ بِصورۃٍ مُکَبَّرۃٍ: اضافی طور پر، بڑے پیمانے پر، مُکابر: گستاخ، مغرور، خودرائے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، جھگڑالو، شورہ پشت، لڑاکا، حجتی، نزاع انگیز، تکرار کرنے والا، ضدی، ہٹ دھرم، خودسر، خودرائے، مُصر۔ مُتکبّر: مغرور، متکبر، آمرانہ، تحکمانہ، نک چڑھا، نخوت پسند، حقارت سے دیکھنے والا۔ کَبَر: ایک خاردار جھاڑی۔ کَبْرَت ہ: پر گندھک کا لیپ کرنا، کو گندھک کی دھونی دینا، گندھک سے صاف کرنا، کو ولکنا ئز کرنا، کِبریت: گندھک، ماچس، عودُ کِبریت: ماچس کی تیلی۔ یَنبُوعُ کبریتی: گندھک کا چشمہ۔ کِبریتات: سلفیٹ (Sulfate) کُبْرِی یا کوبری جمع کَبارِی: پل، عرشہ جہاز۔

کبس: ۱۔ کَبَسَ ـِ کَبْسًا البئرَ: کنویں کو مٹی سے پاٹنا۔ رَأسَہُ فِی الثوب: سر کو کپڑے میں داخل کرنا۔ ـــــ القومُ دارَہُ: لوگوں کا گھر پر اچانک حملہ کرنا۔ الناصیۃُ جبہتَہُ: پیشانی کے بالوں کا پیشانی کو چھپالینا۔ اللِفت ونحوَہُ فی الخلّ: شلغم وغیرہ کو کھٹا کرنے کے لئے سرکہ میں بھگودینا صفت کَبِیس و مَکْبُوس ج مَکَابِیس: (عامیہ)۔ کَبَّسَ علی الشیئِ: میں گھس پڑنا۔ تکَبَّسَ الرجلُ: سر کو گریبان میں داخل کرنا۔ تَکَبَّسَ علی الشیٔ: میں گھس پڑنا ـــــ و اِنکَبَسَ النهرُ و اوالبئرُ: نہر یا کنویں کا مٹی سے بھر جانا۔ الکابسۃ مونث الکابس کی: پیشان پر لٹکے ہوئے بال۔ ارنبۃٌ کابسۃ: اوپر کے ہونٹ پر جھکا ہوا ناک کا بانسہ۔ الکِبْس: کنواں پاٹنے والی مٹی، مٹی کا گھر، پہاڑ کی جڑ میں غار، خزانہ۔ الکَبْسَۃ: اچانک حملہ۔ الکُبَاس: سر کو کپڑے میں لپیٹ کر سونے والا۔ الکَبِیس: ایک قسم کا زیور جس کے اندر خوشبو بھری ہوتی ہے۔ المَکَابِیس: وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں میں اکثر گھس آتے ہیں۔ المُکَبِّس (فا): لوگوں کے پاس اچانک آکر ان کو دبانے والا۔

۲۔ کَبَسَ ـِ کَبْسًا علی الشیٔ: کو زور سے بھینچنا (سریانی لفظ) کَبَّسَ الجسدَ: جسم کو ہاتھوں سے مل کر نرم کرنا۔ ـــــ المهرَ: بچھیرے کو خوب سدھانا (عامی لفظ)۔ الثورَ: بیل کو ہل چلانے کا عادی بنانا۔ الکابُوس: پریشان کن خواب جس میں سویا ہوا شخص ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ المِکْبَس ج مَکَابس و المِکْبَاس ج مَکَابِیس: اون یا اوراق وغیرہ دبانے کا آلہ، زیتون کو نچوڑ کر تیل نکالنے کا آلہ المُکَبِّس (فا): سر نیچا رکھنے والا۔

۳۔ کَبَسَ ـِ کَبْسًا السنۃَ بیومٍ: سال میں ایک دن زیادہ کرنا۔ السنۃُ الکَبِیسۃ مِن السنین الشمسیۃ: وہ سال جس میں فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یہ ہر چار سال کے بعد ہوتا ہے۔ ـــ ل: جو چار پر برابر برابر تقسیم ہو جائے۔

۴۔ کَبِسَ ـَ کَبَسًا: بڑے سر والا ہونا صفت أکْبَس مونث کَبْسَاء ج کُبْس۔ الکِبْس: بڑا سر الکُبَاس: بڑے سر والا، پرگوشت۔ هامۃٌ کُبَاسٌ: موٹی گول کھوپڑی۔ ہ الکِبْس: اصل۔ جبالٌ کُبْسٌ و کُبَّسٌ: سخت پہاڑ۔ الکِبَاسَۃُ جمع کَبَائِس: کھجوروں کا گچھا۔ الکَبِیس: کھجور کی ایک قسم۔ الکَبْسُول: واحد کَبْسُولۃ کارتوس کے اندر بھرا ہوا بارود۔ بعض عام لوگ اسے کبسون کہتے ہیں اس کی واحد کبسونہ ہے (عام لاطینی لفظ ہے)۔

○ کَبَسَ ـِ کَبْسًا علی: پر دباؤ ڈالنا، کو دبانا، بھینچنا۔ ـــ ہ: کسی جگہ حملہ کرنا، چھاپہ مارنا، پر اچانک حملہ کر کے قبضہ کر لینا، کو سرکہ وغیرہ میں ڈال کر محفوظ رکھنا، کا اچار ڈالنا۔ کَبَّسَ ہ: کو سختی سے دبانا یا نچوڑنا، کی چپی کرنا، کے ہاتھ پاؤں دبانا۔ کَبْس: دبانا، نچوڑنا، ـــ ہ: چھاپہ، حملہ (سرکہ وغیرہ میں) محفوظ رکھنا، اچار ڈالنا۔ کَبْسَۃ: چھاپہ، اچانک حملہ۔ ـــ علی: پر دباؤ۔ کَبَّاس: پسٹن، پریس، بندوق کا گز۔ مُوسَی کَبَّاس: قلم تراش۔ کَبِیس: (سرکہ میں) محفوظ کیا ہوا، اچار، مربہ، الحاق کیا ہوا، لفظ یا ہندسہ۔ سنۃ کَبِیسَۃ: لیپ کا سال۔ کَابُوس جمع کَوَابِیس: کابوس، ڈراؤنا خواب، وہم کی پیداوار، ہوّا۔ مِکْبَس جمع مَکَابس یا مِکباس جمع مکابیس: پریس (پمپ کا) پسٹن، بندوق کا گز۔ مِکْبَس القُطْن: روئی دبانے کی مشین۔ مِکْبَسُ الخطابات: نقل اتارنے کی مشین۔ مِکْبَسٌ مائی: شکنجہ آبی۔ تکبیس: چپی، ہاتھ پاؤں دبانا، مالش۔ آلۃٌ کابسَۃٌ: کمپریسر (Compressor) مَکْبُوس: چھاپہ مارا ہوا، حملہ کیا گیا، دبایا ہوا، محفوظ کیا ہوا، اچار، مربہ۔ مکبوسات: ڈبوں میں بند ماکولات، مربے۔ کَبْسُول یا کَبْسُولۃ: کیپسول، بندوق داغنے کا آلہ، بم کی بتی، فوٹو اتارنے کی گھنڈی۔

کبش: کَبَشَ ـُ کَبْشًا الشیئَ: کو مٹھی بھر کر لینا۔ الکَبْش: قوم کا سردار، بڑا پتھر جو دیوار پر نشانہ کرنے کے لئے لگایا جائے، ایک جنگی آلہ جو حصار کے موقع پر قلعوں پر پتھر پھینکنے کے کام آتا تھا۔ ـــ جمع کِبَاش وَاَکْبَاش و اَکْبُش و کُبُوشَۃٌ: مینڈھا جب دو سال کا ہو اور بقول بعض چار سال کا۔ الکِبَاشُ: بہادر لوگ۔ کَبْشُ التوت و کَبْشُ القرنفل ج کُبُوشٌ: توت اور قرنفل کے پھل۔ الکَبْشَۃ عند الخیّاطین جمع کُبَش: (عامی لفظ) گھنڈی، تکمہ، بکسوا۔ الکَبّاشُ: مینڈھوں والا۔

○ کَبْش جمع کِبَاش و اَکباش: مینڈھا، نر بھیڑ، وہ بھیڑ جو سب سے آگے چلتی ہے اور اس کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوتی ہے۔ اگوا کار بھیڑ۔ سردار، رہنما، سربراہ، سالار، مکھیا، سرخیل، قائد، سرغنہ، قلعہ شکن گاڑی، دھرمٹ، ٹھوکنے کوٹنے کی مشین، جمع کُبُوش: پشتہ، بند، سہارا، آڑ، شہتوت کا درخت، کَبْشُ التصادم جمع کُبُوش: ریلوے انجن کا ٹکر روک، بمپر۔ کُبُوش قَرَنفُل: لونگ (جمع) کَبْشَۃ: مٹھی بھر، ذرا سا، گرفت، پکڑ۔ کَبْشَۃ: ڈوئی، کفچہ، کُبْشَۃ جمع کُبَش: ہک، شکنجہ، سنڈاسی، کسنے والی چیز، بکسوا، آنکڑا، جڑاؤ پن۔

کبع: کَبَعَ ـَ کَبْعًا الشیئ: کو کاٹنا۔ ـــ ہ عن کذا: کو سے منع کرنا۔ کَبَّعَ الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

۲۔ کَبَعَ ـَ کُبُوعًا: ذلیل ہونا، جھکنا۔

۳۔ کَبَعَ ـَ کَبْعًا الدراھمَ: دراہم پرکھنا اور وزن کرنا۔

۴۔ الکُبَعُ (ح): ایک قسم کی بڑی مچھلی جس کو جمل البحر بھی کہتے ہیں۔

○ کَبْکَبَ ہ: کو ڈگمگا کر گرانا، اوندھا کرنا، الٹ دینا، تلے اوپر کر دینا، الٹا دینا، پلٹانا، گرانا، پھینکنا، پچھاڑنا۔

کبل: ۱۔ کَبَلَ ـِ کَبْلًا ہُ: کو بیڑی ڈالنا، قید کرنا۔ ـــ ہُ الدَّیْنَ: سے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ کَبَّلَ ہُ: کو بیڑی ڈالنا، قید کرنا۔ کَابَلَ مُکَابَلَۃً ہ الدَّیْنَ: کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔ ـــ الدارَ: مکان کے خریدنے میں دیر کرنا تا کہ دوسرا شخص خریدے پھر حق شفعہ کا دعوی کر کے لے لینا۔ تکَبَّلَ: بیڑی ڈالا جانا قید ہونا۔ اِکْتَبَلَ الاسیر: قیدی کو بیڑی ڈالنا۔ ـــ الکِیْسَ: تھیلی کو باندھنا۔ ـــ خیرَہُ: مال روکے رکھنا مال خیرات نہ کرنا۔ الکَابُولُ: شکاری کا جال۔ الکَبْلُ: ج کُبُولٌ و اَکْبُلٌ: بیڑی، بیڑی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سے بڑی کوئی چیز۔ ڈول کا کنارہ یا ڈول کا وہ کنارہ جہاں چمڑا مڑا ہوا ہو۔ الْكِبْلُ ج كُبُولٌ و اَكْبُلٌ: بیڑی یا بڑی بیڑی۔

۲۔ الْكَبْلُ بہت بالوں والی پوستین۔ الْكَبَلُ و الكابليّ: تنگ کپڑا وغیرہ کہا جاتا ہے۔ فَرْوٌ كَبَلٌ او كَابِلِيٌّ

کبن ا۔ كَبَنَ ـِ كَبْنًا الثوبَ: کپڑے کو اندر موڑ کر سینا۔ ـ الشیئَ: کو غائب کرنا۔ كَبِنَ ـَ كَبَنًا و كُبُونًا الرجُلُ: سامنے والے اوپر یا نیچے کے دانتوں کا منہ کے اندر گھسے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ ـــ الظبیُ: ہرن کا زمین سے چمٹنا۔ اِكْبَأَنَّ اِكْبِنَانًا: سمٹنا۔ ـ الظبیُ: ہرن کا زمین سے چمٹنا۔ ـ الرجلُ شکستہ دل ہونا۔ الْكِبْنُ: (مص) ڈول کا کنارہ، ڈول کا موڑ کر سلا ہوا کنارہ۔ الْكُبُنُّ: روٹی۔ بخیل، کنجوس، کمینہ الْكُبُنَّةُ: خشک روٹی، کمینہ بخیل۔ الْمَكْبُونُ من الخیل ج مَكَابِينُ مونث مَكْبُونَةٌ: چھوٹی ٹانگوں والا گھوڑا۔

۲۔ كَبَنَ ـــ كَبْنًا و كُبُونًا آہستہ آہستہ دوڑنا، پرسکون ہونا، مطمئن ہونا۔

۳۔ كَبَنَ ـــ كَبْنًا عن الشیئ: کسی چیز سے بد دل ہونا۔ سے باز رہنا ـــ عنه لسانَهٗ: سے زبان روک لینا۔ ـــ هديتَهٗ تحفہ روک لینا۔ كَبَنَ ـِ كَبْنًا و كُبُونًا: پڑوسی کو چھوڑ کر دوسرے پر احسان کرنا۔ اَكْبَنَ لسانَهٗ عَنْهُ: سے زبان روک لینا۔

۴۔ كَبُنَ ـِ كَبْنًا و كُبُونًا موٹا ہونا۔

۵۔ كَوْبَنَ الفرسَ گھوڑے پر کوبان ڈالنا۔ الْكُوبَانُ: ایک مخصوص شکل کا کپڑا جو گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا جاتا ہے (عامی لفظ)۔

۶۔ الْكُبَانُ: اونٹ کی ایک بیماری۔ الْمَكْبُونُ ج مَكَابِينُ مونث مَكْبُونَةٌ: کبان کی بیماری والا اونٹ۔ رجل مكبون الاصابع: سخت اور مضبوط انگلیوں والا مرد۔

کبو ا۔ كَبَا يَكْبُو كَبْوًا و كُبُوًّا لِوَجْهِهٖ: منہ کے بل گرنا ـــ ماءً فی الوعاء: برتن میں پانی ڈالنا۔ ـــ الكوزَ: کوزہ میں موجود چیز کو گرا دینا۔ كَابَى مُكَابَاةً السیفَ: تلوار کو میان میں رکھنا۔ اِنْكَبَى: منہ کے بل گرنا۔

الْكَبْوَةُ: کبا کا اسم مرہ۔ تیرگی۔

۲۔ كَبَا يَكْبُو كَبْوًا و كُبُوًّا ت النارُ: آگ کی چنگاری کا راکھ میں پوشیدہ ہونا۔ ـــ الغبارُ: غبار کا اوپر کو چڑھنا۔ ـــ الجمرُ: چنگاری کا بلند ہونا۔ ـــ الرجلُ: بیٹھے بیٹھے اونگھتے رہنے کے بعد جاگ کر پھر اونگھنے لگنا صفت كابٍ (عامیة)۔ كَبَّى تَكْبِيَةً النارَ: آگ پر راکھ ڈالنا۔ ـــ ثوبَهٗ بالكِبَاء: کپڑے کو کباء سے دھونی دینا۔ تَكَبَّى علی المِجْمَرة: عود دان پر کپڑے کو ڈالنا۔ اِكْتَبَى بالعود: عود سے دھونی لینا۔ الكَابِي: (فا) بلند کہا جاتا ہے۔ فلان كابی الرماد: فلاں بہت راکھ والا ہے یہ اس کے مہمان نواز ہونے سے کنایہ ہے۔ غبارٌ كابٍ بلند غبار۔ الْكَابِيَةُ مونث الكابی کا جھاگ ـــ نار كابية: راکھ میں چھپی ہوئی آگ۔ الْكِبَاءُ: پانی کے ادھر ادھر غلیظ جھاگ، کوڑا کرکٹ۔ الْكُبَاءُ: بلند۔ الْكِبَا ج كُبًّى: دھونی کی لکڑی۔ الْكُبْوَةُ: دھونی دینے کی انگیٹھی۔

۳۔ كَبَا يَكْبُو كَبْوًا و كُبُوًّا الزَنْدُ: چقماق سے آگ نہ نکلنا۔ ـ السهمُ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ اَكْبَى اِكْبَاءً الزَنْدُ: چقماق سے آگ نہ نکلنا۔ اَكْبَيْتُ الزند: میں نے چقماق سے آگ کے بغیر دھواں نکلنے دیا الفحمُ الكابی: بجھا ہوا کوئلہ۔ رجُلٌ كابٍ: باوجود خیر کی طرف دعوت کے متوجہ نہ ہونے والا مرد۔

۴۔ كَبَا يَكْبُو كَبْوًا و كُبُوًّا الشیئَ: کسی چیز کو صاف کرنا ـــ البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ الْكِبَا و الْكِبَى ج اَكْبَاءٌ و الْكُبَةُ ج كُبُونٌ: کوڑا کرکٹ۔ الْكُبْوَةُ: غبار۔

۵۔ كَبَا يَكْبُو كَبْوًا و كُبُوًّا النبتُ: نباتات کا مرجھانا۔ ـ النورُ: روشنی کم ہونا۔ ـ لونُ الصبح والشمس: صبح یا آفتاب کا تاریک ہونا۔ اَكْبَى اِكْبَاءً وجهَهُ: چہرہ تبدیل کرنا۔

○ كَبَا ـُ كَبْوًا و كُبُوًّا: ٹھوکر کھانا، پھسل پڑنا۔ ـ ه: برتن خالی کرنا، برتن کی چیزوں کو گرا دینا۔ ـــ (روشنی کا) دھندلانا (رنگ کا) پھیکا پڑ جانا، (گرد و غبار کا) بلند ہونا، چکر کھانا۔ اَكْبَا: لائٹر کا شرارہ نہ دینا۔ اِنْكَبَا: سر کے بل گرنا، ٹھوکر کھا کر گرنا، پھسل پڑنا۔ كَبْوَة: سقوط، الٹ کر گرنا، اُتارنا، ٹھوکر کھا کر گرنا، غلط قدم، گرد و غبار، كَابٍ: پھیکا (رنگ) دھندلی (روشنی)، زرد، پرسکوت، موٹا، فربہ، چربیلا، بھرا ہوا، کمزور، زار و نزار، سست، ڈھیلا ڈھالا۔

کت ا۔ كَتَّ ـُ كَتًّا ه: کو شمار کرنا کہا جاتا ہے۔ اتانا بجیش مایُكَتُّ: (وہ ہمارے اوپر بے شمار فوج لے کر آیا) اور کہا جاتا ہے۔ ماتكتُّهٗ او تكتُّ النجومَ: تو اسے یا ستاروں کو شمار نہیں کر سکتا۔

۲۔ كَتَّ ـِ كَتِيتًا: آہستہ آہستہ چلنا۔

۳۔ كَتَّ ـُ كَتًّا الكلامَ فی اذنه: کے کان میں چپکے چپکے کوئی بات کہنا۔ اَكَتَّ الكلامَ فی اذنه: کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہنا۔ اِكْتَتَّ الكلامَ فی اذنه: کے کان چپکے چپکے کہنا۔ ـ الحدیثَ: بات سننا۔

۴۔ كَتَّ ـِ كَتًّا البعیرُ: اونٹ کا آہستہ آہستہ بڑبڑانا۔ كَتَّتِ القدرُ ہنڈیا کا ابلنا۔ تَكَاتَّ الناسُ لوگوں کا شور کے ساتھ جمع ہونا۔ الْكَتَّةُ: کت کا اسم مرہ۔ الْكَتِيتُ (مص) ہانڈی اور شراب وغیرہ ابلنے کی آواز

۵۔ كَتَّ ـِ كَتًّا الرجلَ مرد کو ذلیل کرنا، رنجیدہ کرنا۔

۶۔ الْكَتُّ: کم گوشت مرد یا عورت، دبلا، دبلی۔ الْكَتَّةُ: زمین کی سبزی۔ الْكُتَّةُ: ردی مال۔ الْكَتِيتُ بخیل، کہا جاتا ہے۔ رجل كتيتُ الیدین یعنی بخیل مرد۔ الكَتِيتَةُ ایک قسم کا کھانا۔

۷۔ كَتْكَتَ الرجلُ قہقہہ کے بغیر ہنسنا، آہستہ آہستہ چلنا یا جلدی میں قریب قریب قدم رکھنا تَكَتْكَتَ الرجلُ آہستہ چلنا۔ الْكُتَكَاتُ تیز اور لگاتار بولتے چلے جانے والا۔

○ كَتَّ ـِ كَتًّا: بھنبھنانا كَتّ و كَتِيت: بھنبھناہٹ

كتالوج جمع كتالوجات: فہرست، فہرست کی الماری۔

کتب: كَتَبَ ـُ كَتْبًا و كِتَابًا و كِتْبَةً و كِتَابَةً الكتابَ: کو لکھنا۔ ـ علیه كذا: پر کچھ واجب کرنا، کہا جاتا ہے۔ **كتب الله علی عبادِهِ الطاعة و علی نفسه الرحمة یعنی اللہ نے بندوں پر اپنی اطاعت فرض کی ہے اور اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا ہے** ـــ كَتَبَ القِرْبَةَ: مشک کو دوہرے تسمہ سے سینا۔ كَتَّبَ الكتابَ: کو لکھنا ـــ الولدَ: بچے کو لکھنا سکھانا۔ ـــ الجنودَ: فوج کے دستے بنانا اور تیار کرنا۔ كَاتَبَ مُكَاتَبَةً ه: ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا، کے ساتھ مل کر لکھنا۔ ـــ العبدَ: غلام کو مال معینہ کی ادائیگی کی شرط پر آزاد کرنا۔ اَكْتَبَهٗ: کو لکھنا سکھانا، کو لکھنے والا پانا۔ ـــ هٗ القصیدة: کو قصیدہ لکھوانا۔ ـــ القِرْبَةَ: مشک کا منہ باندھنا۔ تَكَتَّبَ الرجلُ: کپڑے سمیٹ کر ہوشیار ہونا۔ ـ ت الكتائبُ: فوج کے دستوں کا جمع ہونا۔ تَكَاتَبَ القومُ: ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا۔ اِكْتَتَبَ الكتابَ: کو لکھنا، املاء کرانا، لکھوانا، سے لکھنے کو کہنا الغلامَ: کو لکھنا سکھانا۔ ـ القربة: مشک کو دوہرے تسمہ سے سینا ـ بطنُهٗ: بند ہونا۔ ـــ الرجلُ: رجسٹر یا دیوان وغیرہ میں اپنا نام لکھنا، اس سے ہے۔ اكتتب بمالٍ او اعانة: کچھ مال چندہ یا عطیہ دینا۔ اِسْتَكْتَبَهٗ الشیئَ: کو کچھ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لکھنے کو کہنا۔ ــــ ہُ القصیدۃَ: سے نظم املاء کرانے کو کہنا۔ ــــ الغلامَ: کو کاتب بنانا۔ اَلْکَاتِبُ: (فا) ج کَاتِبُوْنَ و کَتَبَۃَ و کُتَّابٌ: عالم۔ محرر۔ اَلْکُتْبَۃُ ج کُتَــبٌ: سینے کا تسمہ۔ مشک وغیرہ کی درز۔ اَلْـکِتْبَۃُ (مص): کتاب کی نقل، کسی حصہ یا رزق کا رجسٹر میں درج ہونا، حالت۔ اَلْکِتَابُ (مص) ج کُتُبٌ و کُتْبٌ: جس میں لکھا جائے۔ خط صحیفہ، حکم، فرض، اندازہ۔ ۔علی الاطلاق: ہر وہ کتاب جو منزل من اللہ ہو۔ ۔ اھل الکتاب: وہ لوگ جن پر آسانی کتاب نازل ہوئی ہو۔ ۔ ام الکتاب: اصل کتاب۔ سورۃ الفاتحہ۔ اَلْکُتُبِیُ: کتابوں کا محافظ۔ کتب فروش اَلْکِتَابَۃُ (مص) لکھا ہوا۔ مال معین کی ادائیگی پر غلام کو آزاد کرنا۔ اَلْکُتَّابُ ج کَتَاتِیْبُ کاتب کی جمع۔ تعلیم گاہ۔ الکتب بندھن سے بندھی ہوئی مشک اَلْکَتِیْبَۃُ ج کَتَائِبُ: لشکر کا دستہ یا گھوڑوں کی جماعت۔ اَلْمَکْتَبُ ج مکاتب: تعلیم گاہ، لکھنے کی جگہ۔ اَلْمَکْتَبَۃُ ج مَکَاتِبُ: لائبریری۔ اَلْمُکْتِبُ (فا) ــــ رجل مُکْتِب: جس کے پاس کتابیں ہوں لوگ وہاں سے لکھتے رہتے ہوں۔ الْمُکَتِّبُ: (فا) لکھائی سکھانے والا۔ المَکْتُوْبُ (مفع) ج مَکَاتِیْبُ: خط جو کوئی دوسرے شخص کے پاس بھیجے۔

○ کَتَبَ ـــُ کَتْبًا و کِتْبَۃً و کِتَابَۃً ہ: کو لکھنا، ریکارڈ کرنا، درج کرنا، کا مسودہ تیار کرنا، (شعر) کہنا، ــــ ہ ل: کو کچھ وصیت کے ذریعے دینا، میراث کے طور پر دینا، ــ ہ علی: کو کا حکم دینا، ــ ہ علی / ل: کو اللہ تعالیٰ کا ازل سے کسی کے لئے مقرر کرنا، مقدر کرنا۔ کُتِــبَ ل: کے لئے مقدر ہونا، کے مقدر میں ہونا۔ کَتَبَ علی نفسہ ان: کا پکا ارادہ کرنا، کو اپنا فرض بنا لینا۔ کَتَبَ عنہ: کے املا کرانے پر لکھنا۔ کَتَبَ کِتَابَہٗ: کسی کے لئے نکاح نامہ لکھنا۔ ــــ علی: کا سے نکاح کرنا۔ کَتَّبَ ہ ہ: سے کچھ لکھوانا۔ ــــ ہ: فوجیوں کو سواروں کے دستوں میں متشکل کرنا یا ان کی صف بندی کرنا یا انہیں پھیلانا۔ کَاتَبَ ہُ: کے ساتھ خط و کتابت رکھنا۔ کے ساتھ خطوط کا تبادلہ کرنا، کے ساتھ خط و کتابت کرنا، مراسلت کرنا، أَکْتَبَ ہ ہ: کو کچھ املا کرانا، سے کچھ لکھوانا۔ تکاتَبَ: ایک دوسرے کو لکھنا، باہم خطوط کا تبادلہ کرنا، خط و کتابت جاری رکھنا۔ اِنْکَتَبَ: چندہ دینا۔ اِکْتَتَبَ ہ: کچھ لکھنا، کی نقل کرنا، کی نقل بنانا۔ ــ: اپنا نام درج کرنا۔ ــ ل: میں چندہ دینا۔ ــ ب ل: کچھ رقم کسی کو چندہ میں دینا۔ ــ: مندرج ہونا، ریکارڈ ہونا، درج ہونا۔ اِسْتَکْتَبَ ہ ہ: سے کچھ لکھنے کو کہنا، کو کچھ املا کرانا، سے کچھ لکھوانا۔ ــ ہ: سے نقل بنوانا، کِتاب جمع کُتُب: تحریر کا ٹکڑا، ریکارڈ، پرچہ، خط، نوٹ، پیغام، دستاویز، معاہدہ، بالخصوص شادی کا معاہدہ (نکاح نامہ)، کتاب۔ الکتاب: قرآن، بائبل اَھْلُ الکتاب: اہل کتاب، مسیحی اور یہودی کتابُ الزواج: شادی کا معاہدہ۔ کتابُ الطلاق: طلاق کا بل کِتابٌ تعلیمی: نصاب کی کتاب، درسی کتاب کتابُ الِاعتماد: کاغذات نمائندگی، مراسلہ تعارف دارُ الکتب: لائبریری کُتُبی جمع کتبیہ: کتب فروش۔ کتابخانہ و کُتُبخانہ لائبریری، کتابوں کی دکان۔ کُتّاب جمع کَتاتِیب: کُتاب: قرآنی مدرسہ کُتَیِّب: کتابچہ، کِتابَۃ: لکھائی، فن کتابت، خط (طرز تحریر) قلمکاری، نظام تحریر، دستی تحریر، نقش، کتبہ، سکے وغیرہ، پر لکھی ہوئی عبارت، بلے کارڈ، پوسٹر، تحریر کا ٹکڑا، ریکارڈ، پرچہ، معتمدی، تحریری تعویذ، گنڈا، ٹونا، ٹوٹکا جمع کتابات: تحریریں، مضامین۔ کِتابۃً: تحریری طور پر بالکتابۃ: لکھا ہوا۔ بدُون کتابۃ: نہ لکھا ہوا، زبانی، کورا یا سفید یا سادہ کِتابۃُ التاریخ: تاریخ نویسی، وقائع نگاری، تاریخی تحریر۔ کِتابۃُ الدولۃ: ریاستی سکرٹریٹ۔ کِتابۃٌ عامّۃٌ: سیکرٹریٹ جنرل۔ اِسمُ الکتابۃ: قلمی نام آلۃُ الکتابۃ: ٹائپ رائٹر۔ لُغۃُ الکتابۃ: ادبی (کتابی) زبان۔ ورق الکتابۃ: لکھنے کا کاغذ۔ کِتابی: لکھا ہوا تحریری، ادبی، منشیانہ، الہامی کتابوں کا یا الہامی کتابوں پر مبنی (یعنی قرآن، بائبل کا یا ان پر مبنی) الہامی دین کا پیرو کار (کسی امتحان کا) تحریری حصہ۔ اسلوبٌ کتابی: ادبی اسلوب غلطۃ کتابیۃ: سہو قلم، کلرک کی غلطی أعمالٌ کِتابیۃ: کلرک کا کام، دفتری کام، ڈیسک ورک الکمالُ الکِتابی: ادبی، کمال، مکمل ادبی نمونہ، لغۃٌ کِتابیۃ: ادبی (کتابی) زبان مُوَظَّفٌ کِتابی: کلرک۔ کَتیبۃ جمع کتائب: سکواڈرن، رسالہ، سواروں کا دستہ، گھوڑے سوار فوج۔ بٹالین، رجمنٹ، زرہ بکتر، رسالہ یا گاڑیوں پر سوار یونٹوں کی بٹالین، تحریر کا ٹکڑا، پرچہ، ریکارڈ، دستاویز، لکھا ہوا تعویذ۔ مَکْتَب جمع مَکاتِب: دفتر، بیورو، کاروباری دفتر، مطالعہ کا کمرہ، سکول، ابتدائی سکول، محکمہ، ایجنسی، ڈیسک۔ مکتبُ الأخبار و مکتبُ الأنباء: خبر رساں ایجنسی، پریس ایجنسی، تار ایجنسی مکتب البرید: ڈاکخانہ مکتب البرید الرئیسی: بڑا ڈاکخانہ مکتبُ البرق: ٹیلیگراف آفس مکتب التحریر: ایڈیٹوریل روم مکتب التلیفونات: ٹیلیفون سنٹرل آفس مکتب السفریات: ٹریول ایجنسی۔ مکتب الصِحّۃ: ہیلتھ بورڈ مکتب الاستعلامات: دفتر معلومات، خبر رساں ایجنسی، پریس ایجنسی، تار سروس مکتبۃ جمع مکتبات و مَکاتِب: لائبریری، کتابوں کا سٹور، ڈیسک۔ مِکتاب: ٹائپ رائٹر۔ مکاتبۃ: خطوط کا تبادلہ۔ خط و کتابت اِکْتِتاب: نام درج کرنا، رجسٹریشن، بھرتی کرنا جمع اکتتابات: چندہ۔ اِستکتاب: املاء، آلۃ استکتابیۃ: ڈکٹافون۔ کاتِب جمع کاتبون و کُتّابُ و کتبۃ: لکھنے والا، لکھاری، قلمکار، مصنف، کلرک، منشی، کاتب، سیکرٹری، ٹائپسٹ کلرک، دفتری کارکن، دفتری ملازم، رجسٹرار، بیمہ کا ماہر، عدالت کا کلرک، دستاویزات وغیرہ کی تصدیق کرنے والا کاتِبُ الدولۃ: ریاست کا انڈر سیکرٹری کاتِبُ السِرّ: پرائیویٹ سیکرٹری کاتِب قِصَصی: افسانہ نگار، ناول نگار کاتب المَحْکَمۃ: کورٹ کلرک۔ آلۃٌ کاتِبۃ: ٹائپ رائٹر۔ کاتِبۃ جمع کاتِبات: خاتون سیکرٹری، مصنفہ، ادیبہ۔ مکتوب: لکھا ہوا، ریکارڈ کیا ہوا، ــ علی / ل: کا مقدر ــ: لکھی ہوئی چیز تحریر۔ جمع مَکاتِیب: تحریر، پیغام، نوٹ، خط، مراسلہ مُکاتِب: اخبار کا نامہ نگار یا رپورٹر۔ مُکْتَتِب: چندہ دینے والا، اخبار یا رسالہ کا خریدار۔

کتح: کَتَحَ ــَ کَتْحًا الطعامَ: کو پیٹ بھر کر کھانا۔ ــ الدبی الارض: کیڑے مکوڑوں کا نباتات اور درخت وغیرہ کو چاٹ جانا۔ کَتَحَتْہُ الرِّیْحُ: پر ہوا کا گرد و غبار اڑانا۔

کتخ: اَلْکَتْخَدَا و الْکَتْخُدَای: دو فارسی زبان کے لفظ ہیں جو سیاستدانوں میں سے گورنر کے سیکرٹری یا منیجر کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

کتد: ا۔ اَلْکَتَد و الْکَتِدُ: ج اَکْتادٌ و کُتُوْدٌ: انسان کے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ کہا جاتا ہے۔ خرجوا علینا أکتاداً و أکداداً: (وہ ہمارے خلاف گروہ گروہ ہوکر نکلے۔ الاَکْتَدُ: وہ شخص جس کے کندھوں کا درمیانی حصہ ابھرا ہوا ہو۔

۲۔ کَاتِدْرَائِیَۃٌ: بشپ کے علاقہ کا بڑا گرجا

کتر: اَلْکُتْرُ: لڑکھڑاہٹ کی چال۔ ــــ و الکَتَرُ: بلند کوہان۔ الِکتر: بلند کوہان، بلند عمارت، گنتا، اندازہ، چھوٹا ہودا، ہر چیز کا درمیانی حصہ۔ الکَتْرَۃُ: چال میں نشے والی لڑکھڑاہٹ، بلند کوہان۔ الکِتْرَۃُ: قبہ، گنبد، کوہان کا ایک ٹکڑا۔

کتش: کَتَشَ ـُ کَتْشًا لاھلہ: اپنے گھر والوں کے لئے کمائی کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

كتع: كَتَعَ ـ كَتعًا به: کولے جانا۔ ـــ كُتُوعًا فى الارض: دور ہونا اور بھاگ جانا۔

كَتِعَ ـــ كَتَعًا فى العمل: مستعد ہونا، کوشش کرنا۔ تَكَاتَعَ الرجُلان: ایک دوسرے کا پیچھا کرنا کہا جاتا ہے۔ جاء مُكْتِعًا و مَكَوْتِعًا: وہ تیز بھاگتا ہوا آیا۔

۲۔ كَتِعَ ـَ كَتَعًا: سکڑنا، ل جانا۔ لنجا ہونا۔ حَوْلٌ كَتِيعٌ: پورا سال۔ الأكْتَعُ مونث كَتْعَاءُ: جس کی انگلیاں ہتھیلی کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ یہ لفظ اجمع کا تابع بھی ہے لیکن اس موقع پر یہ اجمع کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے رأيتهم اجمعين اكتعين. میں نے ان سب کو دیکھا۔ الكَتْعَاءُ: یہ بھی مونث کی تاکید کیلئے جمعاء کا تابع ہے کہا جاتا ہے اشتريتُ الدارَ جَمْعَاءَ كَتْعَاءَ: میں نے پورا مکان خرید لیا۔ كُتَعُ: ج كَتْعَاء: یہ مونث کی تاکید کے لئے آتا ہے کہا جاتا ہے۔ اشتريتُ هذهِ الدارَ جَمْعَاءَ كَتْعَاءَ ورأيتُ اخواتك جُمَعَ كُتَعَ: میں نے یہ سارا گھر خرید لیا ہے، میں نے تیری تمام بہنوں کو دیکھا۔ كتع وصف اور عدل دو اسباب کی بناء پر غیر منصرف ہے اور کتع کو جمع کے بعد بطور تاکید استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جمع کے بغیر تنہا استعمال نہیں ہوتا۔ رأيٌ مُكْتَعٌ: متفقہ رائے۔

۳۔ كَتَّعَ اللحمَ: گوشت کے ٹکڑے کرنا۔ الكَتِيعُ: تن تنہا، اکیلا کہا جاتا ہے۔ مابالدار كتيعٌ او كُتَاعٌ: یعنی گھر میں ایک بھی نہیں۔

۴۔ كَاتَعَهُ اللّٰهُ: خدا اسے تباہ کرے۔

۵۔ الكُتَعُ: ج كِتْعَانٌ: ذلیل کمینہ۔ الكُتْعَةُ ج كِتَاعٌ۔ والكُتْعَةُ ج كُتَعٌ، والكِتْعَةُ ج كِتَعٌ: چھوٹا ڈول۔ الكَتْعَاءُ: لونڈی۔ الكَتِيعُ: کمینہ، ذلیل۔

○ أكْتَعُ جمع كُتْع: مڑی ہوئی انگلیوں والا، لنجا۔

كتف: ۱۔ كَتَفَ ـِ كَتْفًا و كِتَافًا الرجُلَ: ـــ کے کندھے پر مارنا، کی مشکیں کسنا ـ السرجُ الدابَّةَ: زین کا جانور کے کندھے کو زخمی کرنا۔ ـ كَتْفًا و كَتِيفًا: آہستہ چلنا یا کندھے ہلاتے ہوئے چلنا، کجاوہ کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھنا ـ كَتْفًا و كَتَفَانًا الطائرُ: پرندے کا بازؤں کو پیچھے کی طرف ملا کر اڑنا۔ كَتِفَ ـَ كَتَفًا: چوڑے یا بڑے کندھوں والا ہونا، کندھے میں درد کی شکایت کرنا۔ ـ الرجُلُ: مرد کا آہستہ چلنا۔ كَتَّفَ الرجُلَ: کسی کی مشکیں کسنا۔ ـــ ت الفرسُ: گھوڑے کا چلنے میں کندھوں کو ہلانا۔ تكَتَّفَ: سینے پر ہاتھ باندھنا۔ ـ ت الخيلُ: گھوڑے کا چلنے میں کندھوں کو اٹھانا۔ اِكْتَتَفَ البندقيةَ: نشانہ کے لئے بندوق کندھے پر ٹکانا۔ الكَتِفُ والكِتْفُ والكَتْفُ ج كِتَفَةٌ و اكْتَافٌ (ع ا): شانہ، کندھا (مونث) ضرب المثل ہے اِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِن أينَ تُؤكَلُ الكَتِفُ: اس چالاک شخص کے حق میں بولتے ہیں جو معاملات کے داؤ پیچ سے واقف ہو۔ الكَتَفُ: (مص) کندھے کے درد کی وجہ سے جانور کی لنگڑاہٹ، کندھے کی کمی و کوتاہی۔ الكِتَافُ ج اكْتِفَةٌ و كُتُفٌ و كُتْفٌ: مشکین کسنے کی رسی۔ الكُتْفَانُ والكِتْفَانُ: واحد كِتْفَانَةٌ (ح) ٹڈیاں جو پہلی مرتبہ اڑیں۔ الكَتِيفَةُ: ج كَتَائِفُ: دروازے کی چٹخنی الأكْتَفُ من الرجال، مونث كَتْفَاءُ ج كُتْفٌ: جس کا کندھا درد کر رہا ہو۔ ـ من الخيل والجمال: وہ اونٹ یا گھوڑا جس کے کندھے میں درد ہو۔ ـــ من الخيل: وہ گھوڑا جس کے کندھے کا اوپر کا حصہ چوڑا ہو۔ المِكْتَافُ: وہ جانور جس کا شانہ زین کے لگنے سے زخمی ہو گیا ہو۔

۲۔ كَتَفَ ـــِ كَتْفًا و كِتَافًا و كَتَّفَ الاناءَ: برتن کو لوہے وغیرہ کے پتر سے جوڑنا۔ الكَتِيف جمع كُتُف: لوہے وغیرہ کا چوڑا پتر۔

۳۔ كَتَفَ ـــِ كَتْفًا و كِتَافًا الامرَ: کو ناپسند کرنا۔ الكاتف (فا): ناپسند کرنے والا۔ الكَتِيفَةُ: ج كَتَائِفُ: کینہ۔

۴۔ كَتَفَ ـِ كَتْفًا و كَتِيفًا فى الامر: میں نرمی کرنا۔

۵۔ كَتَّفَ اللحمَ و نحوَهُ: گوشت وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ الكَتِيفُ ج كُتُفٌ: چوڑی تلوار۔ الكَتِيفَةُ: ج كَتَائِفُ: جماعت۔

○ كَتَفَ ـــِ كَتْفًاه: کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالنا، ـ ہ کو باندھنا۔ كَتَّفَ: ہاتھ پشت پر باندھنا۔ ـــ ہ: ہاتھ پشت پر یا سینہ پر باندھنا۔ تكَتَّفَ و اِسْتَكْتَفَ: ہاتھ باندھنا۔ تَكَاتَفَ: کندھے ملا کر کھڑا ہونا، ایک دوسرے کی تائید و حمایت کرنا، متحد ہونا، متحد رہنا۔ كَتِف، كَتْف و كِتْف جمع أكْتَاف و كِتَفَة: کندھا، مونڈھا، پہاڑ کی ڈھلان، پل کا کنارے کا سہارا۔ جمع اكتاف: اڑوڑا، ستون۔ مَا هكذا تُؤكَلُ الكتف: ایسا کرنے کا یقیناً یہ طریقہ نہیں اس سے نبٹنے کا یہ طریقہ نہیں۔ كِتَاف جمع كُتُف: بیڑی، ہتھکڑی۔ أكْتَف مونث كَتْفاء جمع كُتْف: چوڑے کندھوں والا۔ كَتَكَت: سوزن کاری کا ریشمی دھاگا، ریشم کی ردی كَتْكُوت جمع كَتَاكِيت: چوزہ۔ چینگا۔

كتل: ۱۔ كَتَلَ ـُ كَتْلاً هُ: کو قید کرنا۔ كَاتَلَهُ اللّٰهُ: کو اللہ کا تباہ و برباد کرنا۔ الكَتَالُ: تنگ زندگی۔ الأكْتَلُ: مصیبت۔ المِكْتَلُ: زمانے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت۔

۲۔ كَتِلَ ـَ كَتَلاً: چمٹنا صفت كَتِلٌ ـ الحمارُ: گدھے کا زمین پر لوٹنے سے گرد آلود ہونا كَتَّلَ الشيءَ: کو جمع کرنا، گول بنانا، عوام الناس اسے "كَبْتَلَه" بولتے ہیں۔ تَكَتَّلَ الشيءُ: جمع ہونا، تہ بتہ ہونا اور گول ہونا۔ عوام الناس اسے تَكَبْتَلَ کہتے ہیں۔ ـــ القصيرُ: پستہ قد کا چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ الكَتَالُ: گوشت، قوت ـــ و الكَتَلُ: سخت جسم، کہا جاتا ہے۔ القى عليه كَتَالَهُ: اس نے اس پر اپنا بوجھ ڈالا۔

الكُتْلَةُ: ج كُتَلٌ: گوشت کا ٹکڑا۔ ـــ من الطين ونحوه: مٹی وغیرہ کا جمع شدہ ٹکڑا۔ ـــ الكُتْلَةُ الجُزَيْئِيَّةُ لجسم ما (ك): کسی جسم کے حصوں کی معین تعداد کا عدد۔ الذَّرِّيَّةُ لجسم ما (ك): کسی جسم کے ذرات کی معین تعداد کا عدد۔ ذراتی آکسیجن ۱۶ گرام ہے۔ الأكْتَلُ: سخت۔ المِكْتَلُ والمِكْتَلَةُ ج مَكَاتِلُ: چمڑے وغیرہ کا بنا ہوا ٹوکرا۔

۳۔ اِنْكَتَلَ: گزرنا، جانا۔

۴۔ الكُتَالُ: وہ ضرورت جس کو تم پورا کرو، نفس، مشقت، درست کیا ہوا لباس یا کھانا۔ الكَتِيلَةُ ج كَتَائِلُ (ن): وہ کھجور کا درخت جس تک ہاتھ نہ پہنچ سکے۔

۵۔ الكَتَلْبَةُ (ن): ایک خوبصورت درخت جو آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔ جس کا اصلی گہوارہ شمالی امریکہ ہے اسکے پتے چوڑے جبکہ پھول بڑے بڑے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں جن پر مختلف رنگوں کی لکیریں ہوتی ہیں۔

۶۔ الكَاثُولِيكُ: واحد كاثوليكي: کیتھولک عیسائی جو پاپائے روم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں (یونانیہ)۔

○ كَتَلَ ـُ كَتْلاً و كَتَّلَ ہ: کو اکٹھا کرنا، ڈھیر کرنا، ڈھیر بنانا۔ تَكَتَّلَ: ڈھیر لگنا، گچھا ہونا، چپکتے لینا، ایک اتحاد یا گروہ میں متحد ہونا۔ كُتْلَة جمع كُتَل: ڈلا، ٹکڑا، ڈھیلا، منجمد شئے کا چکتا، بیشتر حصہ، ل ڈھیر، مکعب، بلاک، شہتیر، لنٹل، سردل۔ كُتَلٌ بشرية: لوگوں کے ہجوم، انبوہ كتلة الجسد: جسم کا ڈھانچہ۔ كتلةٌ من الاعصاب: نڈر، ہٹا کٹا شخص۔ الكتلةُ الوطنية: قومی اتحاد۔ مِكْتَل جمع مَكَاتِل: بڑی ٹوکری۔ تَكَتُّلٌ: اتحاد سازی، بلاک سازی۔ سِيَاسَةُ التكتل: اتحادوں کی پالیسی۔ مُتَكَتِّل: منجمد، ڈلی دار، گلٹیوں والا، جڑا ہوا، گچھا بنا ہوا، اکٹھا کیا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہوا، مرتکز، مرکوز، ٹھیک پیوست کیا ہوا، اچھی طرح جتایا جمایا ہوا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا، مشٹنڈا، گٹھیلا، بھاری بھر کم۔

کتم: کَتَمَ ـُـ کَتْمًا و کِتْمَانًا الشیئَ: کو پوشیدہ کرنا۔ کبھی کَتَمَ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے کہا جاتا ہے، کَتَمْتُ زیدًا الحدیثَ: میں نے زید سے بات چھپائی اور مفعول اول میں مِن کی زیادتی بھی جائز ہے اور کہا جاتا ہے کَتَمْتُ مِن زیدٍ الحدیثَ ــ کُتُومًا و کِتَامًا الاناءُ: برتن کا دودھ یا پانی کو بہنے سے روک کے رکھنا۔ کَتَّمَ الشیئَ: کو پوشیدہ کرنا، چھپانے میں مبالغہ کرنا۔ کَاتَمَ مُکَاتَمَةً السِّرَّ: کسی سے راز چھپانا کہا جاتا ہے۔ کاتمه العداوة یعنی اس نے دشمنی کو اس سے چھپایا۔ تَکَاتَمَ الرجلان الحدیثَ: ایک دوسرے سے بات پوشیدہ رکھنا۔ اِکْتَتَمَ الشیئَ: کو پوشیدہ کرنا، چھپانا۔ اِنْکَتَمَ: چھپنا۔ اِسْتَکْتَمَ السِّرَّ فلانًا: سے راز چھپانے کو کہنا۔ الکَاتِمُ (فا) کہا جاتا ہے۔ سِرٌّ کاتمٌ: بمعنی مکتوم یعنی چھپا ہوا بھید۔ قوسٌ کاتمٌ: ثابت و درست کمان جس میں پھٹن وغیرہ نہ ہو۔ الکِتْمَةُ: کسی چیز کو چھپانا۔ الکَتْمَةُ: اسم مرہ، کہا جاتا ہے۔ ما راجعته کَتْمَةً: یعنی میں نے اس سے ایک لفظ بھی جواب میں نہیں کہا۔ الکُتَمَةُ و الکَتَّامُ و الکِتَامَةُ: بھید وغیرہ کو بہت زیادہ چھپانے والا۔ الکَتُومُ: بھید کو چھپانے والا۔ من القِسِیِّ: وہ کمان جس سے آواز نہ نکلے یا وہ کمان جو درست اور صحیح ہو۔ الکَتِیمُ من القِسِیِّ: وہ کمان جو بالکل درست ہو یا جس سے آواز نہ نکلے۔ خَرْزٌ کَتِیمٌ: درز جو زیادہ کشادہ نہ ہو اور اس سے پانی نہ ٹپکے۔ سَحَابٌ مُکْتَتِمٌ: ایسا بادل جس میں گرج نہ ہو۔

۲۔ اُکْتُتِمَ الشیئُ: زرد ہونا۔

۳۔ الکَتَمُ و الکِتْمَانُ (ن): ایسا پودا جس سے بالوں کو رنگا جاتا ہے اور اس سے لکھنے کے لئے سیاہی بنائی جاتی ہے۔ الاَکْتَمُ: بڑے پیٹ والا، شکم سیر۔

○ کَتَمَ ـُـ کَتْمًا و کِتْمَانًا ہ عن: کو سے چھپانا، پوشیدہ رکھنا، راز میں رکھنا۔ ــ ہ: (غصہ، جوش وغیرہ) کو دبانا، روکنا۔ ــ ہ: (سانس روکنا، ــ ہ: (آواز) کو نیچا کرنا، دبا دینا۔ ــ ہ: (آگ) بجھانا۔ کَتَمَ انفاسَهُ: کا سانس پھلانا، کو مدہوش کر دینا۔ کَتَّمَ ہ: کو چھپانا۔ کَاتَمَ ہ ہ: سے کچھ چھپانا، راز میں رکھنا۔ تَکَتَّمَ: خاموش رہنا، (کے بارے میں) خاموشی اختیار کرنا۔ اِکْتَتَمَ: بمعنی کَتَمَ۔ اِسْتَکْتَمَ ہ ہ: سے کوئی بات راز میں رکھنے کو کہنا، سے راز کی بات کہنا، کو میں راز دار بنانا۔ کَتْم و کِتْمان: اخفاء، چھپانا، خاموشی (جوش و جذبہ وغیرہ) دبانا۔ کَتِیم: سختی سے بند کیا ہوا، ہوا بند، نا قابل گذر، غیر نفوذ پذیر۔ کَتُوم: خاموش، اخفائے راز کا دلدادہ، چپ، نہ بتانے والا، کم گو، کم سخن، موقع محل دیکھ کر بات کرنے والا۔ کِتَام: قبض۔ تکتّم: اخفاء، پوشیدگی، خاموشی، پردہ داری، راز داری۔ اِکْتِتَام: بمعنی تکتّم۔ کاتم السِّرّ: (پرائیویٹ) سیکرٹری۔ مَکْتُوم: چھپا ہوا، پوشیدہ، محفوظ کیا ہوا (راز)؛ جسے قبض کی شکایت ہو۔

کتن: کَتِنَ ـَـ کَتَنًا: دھوئیں سے سیاہ ہونا۔ ــ الشیئُ: سے میل کچیل لگنا۔ ــ الوسخُ علی الشیئ: پر میل کا چپاں ہونا۔ ــ فلانٌ: سیاہ لب ہونا۔ ــ تِ النخلةُ: کھجور کے درخت کی جڑوں پر مٹی کا چڑھ جانا۔ کَتَّنَ و اَکْتَنَ الشیئَ: کو چپکانا۔ تَکَتَّنَتِ المرأةُ: عورت کا برقعہ، دستانے اور موزے پہننا۔ الکِتْنُ: پیالہ۔ الکَتَنُ: میل کچیل، دیوار کی دھوئیں کی وجہ سے سیاہی، چسپیدگی، ہونٹ کی سیاہی، کھجور کی جڑ کی مٹی۔ الکِتْنُ: پیالہ۔ سِقَاءٌ کَتِنٌ: میلی کچیلی مشک۔ الکَتَّانُ (ن): السی کا پودا۔ (ن) ہنر کائی کہا جاتا ہے لبس الماءُ کَتَّانَهُ: پانی کائی والا ہو گیا۔ الکَتَّانِیَّةُ (ن): السی کے پودے کے پتوں جیسے پتوں والا ایک پودا۔ اس کی ایک قسم زرد رنگ کے بڑے بڑے پھولوں والی ہے جو خوشوں کی شکل کے ہوتے ہیں۔ آرائش کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔ الکَتَّانِیَّاتُ (ن) ایک قسم کا پودا۔ الکَتُّونَةُ: وہ قمیص جسے کاہن لوگ مذہبی تقریب کے وقت نیچے پہنتے ہیں (سریانیہ)

○ کَتِنَ ـَـ کَتَنًا: گندہ ہونا، کالک کے دھبوں والا ہونا، دھوئیں سے کالا ہونا۔ کَتَّنَ ہ: کو گندہ کرنا، کالا کرنا۔ کَتَن: گندگی، کالک، دھواں۔ کَتَّان و کِتَّان: پٹ سن، کتان، کتان کا کپڑا۔ کَتَّانِی: کتان کا بنا ہوا، سن کا، پٹ سن کا۔ کُتَیْنَة: گھڑی کی چین۔

کتو: کَتَا یَکْتُو کَتْوًا: چلنے میں قریب قریب قدم رکھنا۔ اَکْتَیٰ اِکْتَاءً: دشمن پر غالب آنا۔ اِکْتَوْتیٰ اِکْتِیتَاءً: غصہ سے بھر جانا، بغیر کام کے اپنی آپ تعریف کرنا۔

کث: ۱۔ کَثَّ ـِـ کَثَاثَةً و کُثُوثَةً و کَثَّ ـَـ کَثًّا: سخت ہونا، گاڑھا ہونا۔ ــ الشعرُ: بالوں کا گھنا ہونا۔ ــ تِ اللحیةُ: داڑھی گھنی، چھوٹی اور گھنگریالی ہونا۔ اَکَثَّ [illegible] داڑھی والا ہونا۔ و اَکَثُّ مونث کَثَّاءُ ج کُثٌّ۔ الکَثُّ و الکَثِیثُ: گھنی کہا جاتا ہے۔ هو کَثُّ اللحیة و کثیثها: وہ گھنی داڑھی والا ہے۔ و امرأة کَثَّةٌ و کَثَّاءُ: گھنے بالوں والی عورت۔

۲۔ کَثَّ ـِـ کَثَاثَةً و کُثُوثَةً و کَثَّ ـَـ کَثًّا بسلحه: پاخانہ کرنا۔

۳۔ الکَاثُّ: کٹی ہوئی کھیتی کے دانوں سے جو دوبارہ اگ آئے۔ ــ الکَثِیثُ: سن وغیرہ کا باریک دھاگہ جو نکھر جائے۔

۴۔ کَثْکَثَ الرجلُ: گھنی داڑھی والا ہونا۔ الکَثْکَثُ و الکِثْکِثُ: مٹی، پتھر کی کنکریاں۔

○ کَثَّ ـِـ کَثًّا و کَثَاثَةً و کُثُوثَةً: خصوصاً بالوں کا گاڑھا یا گھنا ہونا۔ کَثٌّ: گاڑھا پن، گھنا پن۔ کَثّ و کَثِیث: گاڑھا، گھنا، گنجان اگا ہوا، ٹھوس طور پر ہجوم۔

کثا: کَثَأَ ـَـ کَثْأً و کَثَّأَ تَکْثِئَةً اللبنُ و نحوُهُ: دودھ کا پانی کے اوپر اور پانی کا نیچے آنا۔ ــ الرجلُ: بالائی کھانا۔ ــ تِ القدرُ: ہنڈیا کا جھاگ دینا۔ ــ القدرَ: ہانڈی سے جھاگ علیحدہ کرنا۔ الکَثْأَةُ و الکُثَاةُ من اللبن: بالائی ــ من الماء: پانی کی سطح پر جو آجائے کہا جاتا ہے۔ خذ کثأةَ قِدرِكَ: اپنی ہنڈیا کے جھاگ کو علیحدہ کرو۔

۲۔ کَثَأَ ـَـ کَثْأً و کَثَّأَ تَکْثِئَةً اللحیةُ: داڑھی لمبی اور گھنی ہونا۔ ــ الزرعُ: کھیتی کا سخت اور گنجان ہونا۔ ــ ت اوبارُ الابلِ: اونٹوں کے بالوں کا نکلنا۔ ــ اَکْثَأَتِ اللحیةُ: داڑھی گھنی اور لمبی ہونا۔ الکَثْأَةُ او الکُثَاةُ (ن): شام، مشرق وسطی اور متوسط کے علاقوں میں اگنے والی ایک سبزی جس کے پھول زرد ہوتے ہیں اور یہ سبزی سلاد کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔

کثب: ۱۔ کَثَبَ (ـُـ) کَثْبًا الشیئَ: کو جمع کرنا ــ الشیئُ: جمع ہونا۔ ــ القومُ: اکٹھا ہونا ــ لبنُ الناقةِ: اونٹنی کا دودھ کم ہونا۔ ــ الترابَ: مٹی اڑانا ــ الماءَ: پانی گرانا۔ کَثَّبَ الشیئُ: کم ہونا۔ اَکْثَبَ فلانًا: کو تھوڑا دودھ یا پانی پلانا۔ اِنْکَثَبَ الرملُ: ریت کا ڈھیر ہونا۔ جو کوئی چیز دوسری چیز میں ڈالی جائے تو وہ اس میں مل جاتی ہے۔ الکَاثِبَةُ: ج کَوَاثِبُ: الکاثب کی مونث۔ ــ من الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کا بالائی حصہ۔ الکُثْبَةُ: ج کُثَبٌ: ہر تھوڑی اکٹھی چیز، تھوڑا پانی یا دودھ۔ الکُثَابُ: زیادہ۔ الکَثِیبُ: ج کُثُبٌ و کُثْبَانٌ و اَکْثِبَةٌ: ریت کا ٹیلہ۔

۲۔ کَثَبَ ـِـ کَثْبًا الصیدُ فلانًا: شکار کا کسی کے قریب ہونا کہا جاتا ہے۔ کَثَبَكَ الصیدُ فارْمِهِ (شکار

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تیرے قریب آگیا اس کو تیر مارو)۔ ۔ في المكان: کسی جگہ میں داخل ہونا۔ ۔ عليه: پر حملہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ جاء يكثُبُهُ: (وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا)۔ كَاثَبَ القومَ: قوم سے قریب ہونا۔ اَكْثَبَ الرجلَ و اليه ومنه وله: کے قریب ہونا کہا جاتا ہے۔ اَكْثَبَكَ الصيدُ فارْمِهِ۔ بمعنی كَثَبَكَ الصيدُ فارْمِهِ
الكَثَبُ: قُرب کہا جاتا ہے۔ رماه من كَثَبٍ اوعَنْ كَثَب: یعنی اس نے اس کو نزدیک سے مارا۔ اَلْكَثَّابُ و الكُثَّابُ: بے پیکان و بے پر کا تیر۔
۴۔ الكُثْبَةُ: ج كُثُبٌ: پہاڑوں کے درمیان کی پست زمین۔
⊙ كَثَب: نزدیکی، قربت، قرب، قرب وجوار۔ على كثب من يا عن كَثَبٍ من: کے قریب، کے قرب و جوار میں۔ مِن يا عن كثب: نزدیک سے، تھوڑے فاصلہ پر۔

كثج: كَثَجَ ۔ِ كَثْجًا من الطعام: بقدر کفایت کھانا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت غلہ لے جانا۔

كثح: ۱۔ كَثَحَ ۔َ كَثْحًا الشيئَ: کو جمع کرنا، بکھیرنا ۔ من المال: خواہش کے موافق لینا۔ كَثَحَتِ الريحُ الترابَ عليه: ہوا کا کسی پر غبار ڈالنا۔ ۔ و كَثَّحَ عن كذا: کو ننگا کرنا کہا جاتا ہے۔ كَثَّحَتْهُ الريحُ: یعنی اس کو ہوا نے ننگا کر دیا۔ الكُثْحَةُ من الناس: چھوٹی سی جماعت۔
۲۔ تَكَثَّحَ بالحصى: بتکلف کنکریوں سے مارنا۔ تكَاثَحَ القومُ بالسيوف: تلوار بازی کرنا۔

كثر: كَثَرَ ۔ُ كَثْرًا الرجُلَ: پر کثرت میں غالب ہونا۔ كَثُرَ ۔ُ كَثْرَةً و كَثَارَةً: بہت ہونا صفت كَثْرٌ و كَثِيْرٌ و كُثَارٌ و كَاثِرٌ و كَيْثُرٌ۔ كَثَّرَ ہٗ: کو زیادہ کرنا۔ كَاثَرَهُ: پر کثرت میں غالب آنا، کثرت مال یا کثرت تعداد میں فخر کرنا۔ ۔ الماءَ: پینے کے لئے پانی زیادہ جمع کرنا۔ اَكْثَرَ الرجلُ: بہت مالدار ہونا، بہت لانا۔ ۔ الشيئَ: کو بہت شمار کرنا، بہت پانا، کو بہت کرنا، کہا جاتا ہے۔ اكثر اللّٰهُ فِينا مثلَك: (اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے کو ہمارے اندر شامل کرے) تَكَثَّرَ فلانٌ: کثرت کا دکھلاوا کرنا۔ ۔ بمالِ غيرِه: دوسرے کے مال سے غنی ہونا۔ ۔ من الشيئ: سے بہت لے لینا۔ ۔ بالكلام: بہت گفتگو کرنا۔ تَكَاثَرَ القومُ: کثیر ہونا، کثرت میں ایک دوسرے پر غالب آنا۔ ۔ الشيئ: کو بہت سمجھنا۔ اِسْتَكْثَرَ الشيئَ: کو بہت سمجھنا یا بہت شمار کرنا۔ ۔ من الشيئ: کو بہت کرنا یا بہت کی رغبت کرنا۔ الكَثْرُ: بہت ۔ كُثْرُ الشيئِ: چیز کی بہتات کہا جاتا ہے۔ الحمدُ لِلّٰه على القُلِّ و الكُثْرِ (قلت و کثرت پر اللہ کا شکر ہے)۔ الكِثْرُ: بہت الكَثْرَةُ: بہت الكِثْرَةُ: بہت یہ ردی لغت ہے لیکن بعض نے کہا ہے کہ اگر یہ لفظ قلت کے ساتھ مستعمل ہو تو صحیح ہے جیسا کہ کہا جائے القِلَّةُ و الكِثْرَةُ۔ الكُثْرِيُ من البنيذ ونحوه: : نبیذ وغیرہ کی زیادتی۔ الكُثَارُ: بہت۔ ۔ و الكِثَارُ: جماعتیں۔ کہا جاتا ہے۔ في الدار كُثار او كِثار من الناس: یعنی گھر میں بہت لوگ ہیں یا لوگوں کی جماعتیں ہیں، اور یہ صرف حیوان کے لئے مخصوص ہے دیگر چیزوں پر نہیں بولا جاتا۔ الكَثِيْرُ: بہت، واحد کے برعکس ہے، کہا جاتا ہے۔ رجال كثير و كثيرة و كثيرون و نساء كثير و كثيرة و كثيرات: اور کہا جاتا ہے۔ كَثِيْرًا ما يعملون كذا: (وہ اکثر ایسا کرتے ہیں) یہ ظرفیت کی بناء پر منصوب ہے کیونکہ یہ احیان کی صفت ہے اور ما تاکید کے لئے ہے اور بعض نے اسے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منسوب کیا ہے اور ما کو مبالغہ فی الکثرت کے لئے مانتے ہیں۔ الكَيْثُرُ: بہت فیاض مرد۔ المُكْثِرُ: مال دار۔ المِكْثَارُ و المِكْثِيْرُ: باتونی (مذکر اور مونث دونوں کے لئے)۔ المَكْثُوْرُ (مفع): مغلوب۔ وہ شخص جس پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اسے دبالیں۔ وہ شخص جس کا سرمایہ ختم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق و مطالبات بہت زیادہ ہو جائیں۔
۲۔ اَكْثَرَ النخلُ: کھجور کے درخت کا شگوفہ دار ہونا۔
○ كَثَرَ ۔ُ كَثْرًا ﮪ / ہ: سے تعداد میں زیادہ ہونا۔ كَثُرَ ۔ُ كَثْرَةً: بہت ہونا، کئی یا متعدد ہونا۔ ۔ عن: سے زیادہ ہونا۔ ۔: اکثر و بیشتر واقع ہونا۔ بڑھنا كَثَّرَ ہ: کو بڑھانا، زیادہ کرنا، بڑا کرنا، میں اضافہ کرنا، کو بہت کرنا۔ كَاثَرَ ہ / ﮪ: سے تعداد میں زیادہ ہونا، سے مقدار میں مقابلہ کرنا۔ أَكْثَرَ من: کسی چیز کو بہت کرنا، ۔ ل من: کو کچھ بہت یا اکثر دینا۔ ۔ من / في: کوئی چیز متواتر، ہمیشہ یا اکثر کرنا۔ ۔ ﮪ: کو بڑھانا، میں اضافہ کرنا، تَكَاثَرَ على: کے خلاف جمع ہونا، ٹولہ بنانا، جتھا بنانا۔ اِسْتَكْثَرَ بمعنی اَكْثَرَ نیز استکثر ﮪ: کو بہت زیادہ سمجھنا، حد سے زیادہ خیال کرنا، بے انداز پانا، کو بہت اونچا یا نہایت تکلیف دہ یا احتیاط طلب سمجھنا۔ ۔ ﮪ على: کو کے بارے میں زحمت کے لائق خیال نہ کرنا۔ ۔ ﮪ على: سے کی وجہ سے جلنا یا رشک کرنا۔ ۔: بہت کا مطالبہ کرنا، بہت طلب کرنا۔ اِسْتَكْثَرَ بِخَيْرِهٖ: کا شکریہ ادا کرنا۔ كُثْر: بڑی مقدار، بہتات، بڑا حصہ، زیادہ حصہ، كَثْرة: بڑی مقدار، بڑی تعداد، بہتات، کثرت، کثیر مجمع، فراوانی، کثیر تعداد۔ ۔ من: کا بڑا حصہ۔ بِكَثْرةٍ: افراط سے، بہتات سے، کثرت سے، بڑی تعداد، بڑی مقدار الكثيرُ من: کی اکثریت، میں سے اکثر۔ كَثِيرًا: بہت، بڑی حد تک، اکثر كثيرًا ما: اکثر۔ بِكَثِير: بہت زیادہ، کہیں زیادہ۔ الكثير مِن اور الكثيرون من: کی اکثریت، میں سے اکثر، کافی، میں سے بہت سے، بہت كثيرٌ على: کے لئے ضرورت سے زیادہ۔ الشيئُ الكثير: چیز کی اکثریت هذا كثيرٌ: یہ بہت یا کافی تعداد ہے۔ في كثير مِن الاوقات اور في احيان كثيره: اکثر، كَثِيراء: جنس کتیر کی جھاڑیاں، گوند کتیرا جو ان جھاڑیوں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اكثر: زیادہ، اکثر، بڑا حصہ، زیادہ بڑا حصہ۔ الاكثرون: اکثریت، اكثر فاكثر: زیادہ اور زیادہ على الأكثر: زیادہ سے زیادہ۔ اكثر الامر: زیادہ سے زیادہ۔ اكثر من ذلك: بھی، کے علاوہ، مزید برآں۔ اكثرية: اکثریت۔ مِكْثار: بہت باتونی، بکواسی، بڑبڑیا۔ تكاثر: بڑھوتری، بڑھنا، اضافہ، ازدیاد، افزائش، مُكْثِر: امیر، دولتمند، مُتَكَاثِر: بہت، متعدد، کئی، گوناگون، مُتَكَاثِرُ الرِقاع: کئی جگہ پیوند لگا ہوا۔

كثع: ۱۔ كَثَعَ ۔َ كَثْعًا اللبنُ: دودھ کا گاڑھا اور بالائی والا ہونا۔ كَثَّعَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔ ۔ ت الارضُ: کی روئیدگی کا ظاہر ہونا۔ ۔ ت القِدْرُ: ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔ ۔ الجرحُ: زخم کا اوپر کا حصہ اچھا ہونا۔ فلانٌ السقاءَ: مشکیزہ کی اوپر کی چکناہٹ کو کھانا۔ الكَثْعَةُ و الكُثْعَةُ: بالائی، ہانڈی کا جھاگ۔
۲۔ كَثَعَ ۔َ كُثُوْعًا ت الغنمُ: بکری کا نرم پیٹ والی ہونا۔ ۔ كَثْعًا و كُثُوْعًا و كَثِعَ ۔َ كَثَعًا ت الشفةُ: ہونٹ کا بہت خون والا ہونا یہاں تک کہ الٹنے کے قریب ہو جائے ایسے ہونٹ کو كَاثِعَةٌ اور ہونٹ والے کو اَكْثَعُ کہتے ہیں۔ كَثَّعَ تْ لِحْيَةُ فلانٍ: کی داڑھی لمبی اور گھنی ہونا۔ ۔ الغَنَمُ بمعنی كَثَعَ۔ الكُثْعَةُ: اوپر والے ہونٹ کے درمیان کا گڑھا۔ اِمْرَأَةٌ مُكَثَّعَةٌ: ہونٹوں یا مسوڑھوں میں بہت خون والی عورت۔
۳۔ الكَثَعَةُ: مٹی، گار، کیچڑ۔

كثف: ۱۔ كَثُفَ ۔ُ كَثَافَةً و تكَاثَفَ: موٹا ہونا، بہت ہونا، گنجان ہونا صفت۔ كَثِيْفٌ۔ كَثَّفَ ہ: کو موٹا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا۔ اِستَکثَفَ الشیئُ: گاڑھا ہونا۔ ۔ الشیئَ: کوگاڑھا پانا یا گاڑھا شمار کرنا۔ الکُثفُ: جماعت۔ الکُثَافُ: بہت۔ الکَثِیفُ: گاڑھا، موٹا کہاجاتا ہے۔ رجُلٌ کَثِیفٌ: یعنی سخت اور بدحالی کی زندگی بسر کرنے والا مرد) بہت کہاجاتا ہے: عسکرٌ کثیفٌ و ماءٌ کثیفٌ یعنی بہت زیادہ لشکر اور پانی۔

المُکَثِّفُ (ف): کپیسٹر، کنڈنسر۔

۲۔ اَکثَفَ منه: کے قریب ہونا، قدرت دینا۔

۳۔ اِستَکثَفَ الامرُ: بلند ہونا۔

کثل: کَثَلَ ـُ کَثلاً الشیئَ: کو جمع کرنا۔ الکُثلُ: گروہ۔ الکَوثَلُ والکَوثَلُّ: کشتی کا پچھلا حصہ۔ دنبالہء کشتی۔

۲۔ تَکَثلَكَ: کیتھولک ہوجانا۔ کَاثُولِیكٌ: دیکھئے کاتولیك کیتھولک ہوجانا۔ الکَثلَکَةُ: پاپائے روم کی زیرپیشوائیت مسیحی جماعت (یونانیہ)

○ کَثُفَ ـُ کَثَافَةً: موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، کثیف ہونا، ٹھوس ہونا، گھنا ہونا، جمنا، زیادہ گاڑھا ہونا، زیادہ ٹھوس یا گھنا ہونا۔ کَثَّفَ ہ: کوگاڑھا کرنا، گاڑھا بنانا، کثیف کرنا، ٹھوس کرنا، بھینچنا، دباتا، دباکر چھوٹا کرنا، یکجا جمع کرنا (برقیات میں) صلاحیت بڑھانا۔ تَکَثَّفَ و تکاثَفَ: زیادہ گاڑھا ہونا۔ مرتکز یا مرکوز ہوجانا، ایک نقطہ پر جمع ہوجانا، گاڑھا ہونا، برا ہونا، ناقص ہونا کَثِیف جمع کِثَاف: موٹا، گاڑھا، کثیف، گھنا، ٹھیک پیوستہ، اچھی طرح جما ہوا، بھاری، کھردرا، گھٹیا، خراب، برا، شیرے کی طرح کی (چٹنی وغیرہ)۔ کَثَافَة: گاڑھاپن، گھناپن، کثافت، بھاری پن، مضبوطی، شدت، تیزی، زیادتی، ٹھوس پن، استحکام، درجہء کثافت یا سالمات کوملائے رکھنے کا درجہ، سمائی۔ کثافة السُّکّان: گنجانیٔ آبادی۔ کثافة الصوت: بلندآوازی، پرآوازی، گونج، آواز کا زور۔ مُکَثِّف جمع مُکَثِّفَات: آلہء تکثیف، کپیسٹر (Capacitor) مُکَثِّف متغیّر: تغیر پذیر کپیسٹر۔ مُکَثَّف: گاڑھا کیا ہوا، سیال بنایا ہوا، مُتَکاثِف: گاڑھا، وزنی، ٹھوس، گھنا، گنجان، اکٹھا ہونے والا، مرتکز۔

○ الکَثلَکَة: عیسائیوں کا رومن کیتھولک مذہب۔

کثم: ۱۔ کَثَمَ ـِ کَثمًا الشیئَ: کو جمع کرنا، منہ میں رکھ کر توڑنا۔ کَثِمَ ـَ کَثمًا: شکم سیر ہونا، بڑے پیٹ والا ہونا صفت۔ اَکثَمُ ۔ کَاثَمَ ہ: کے قریب آنا، سے میل ملاپ کرنا۔ اَکثَمَ القِربَةَ: مشک بھرنا۔ ـــ ہُ الصیدُ: سے شکار کا قریب ہونا۔ الکَاثِمُ والکَثِمُ من الطین وغیرہ: گاڑھا کیچڑ وغیرہ۔

کَثَمُ الطریق: راستہ کا ظاہری حصہ، کہاجاتا ہے۔ رماہ عن کَثَم (اس نے اس پر نزدیک سے تیر مارا)۔ الاَکثَمُ: چوڑا راستہ۔ وَطبٌ اَکثَمُ: دودھ سے بھری ہوئی مشک۔

۲۔ کَثَمَ ـِ کَثمًا الاثرَ: کا اتباع کرنا، کی پیروی کرنا۔

۳۔ کَثَمَ ـِ کَثمًا ہُ عن الامرِ: کوکسی چیز سے باز رکھنا۔ اَکثَمَ فی بیته: گھر میں روپوش ہونا۔ تَکَثَّمَ: حیران ہونا، توقف کرنا، چھپنا۔ اِنکَثَمَ من وجه کذا: سے پھر جانا۔

۴۔ اِنکَثَمَ: غمگین ہونا۔

۵۔ الکُثنَةُ: گلدستہ۔ پھولوں کی ٹوکری

کح: ۱۔ الکُحُّ: خالص کہاجاتا ہے۔ هُوَعَرَبِیٌّ کُحٌّ: وہ خالص عربی ہے۔

۲۔ کَحکَحَ ہُ: کوعاجز کردینا۔ (عامی زبان)

○ کَحَّ ـُ کَحًّا: کھانسنا کُحَّة: کھانسی کَحکَحَ: کھانسنا، ہلکا سا کھانسنا۔ خشک کھانسی کھانسنا۔ کَحکَحَة: تھوڑی خشک کھانسی۔ کَحَتَ ـَ و کَحَّتَ ہ: کوکھرچ کراتارنا، صارف کرنا، کوچھیل کر اتارنا۔ کحب: کَحَّبَ الکَرمُ: کچاانگور ظاہر ہونا۔ الکَاحِبُ: بہت، کہاوت ہے۔ عِندَہُ دَرَاهِمٌ کَاحِبَةٌ: (اس کے پاس بہت درہم ہیں)۔ الکَحُبُ واحد کَحُبَة: کچاانگور۔

کحث: کَحَثَ ـَ کَحثًا له من المال: کودونوں ہاتھوں میں بھر کر مال دینا۔

کحص: ۱۔ کَحَصَ ـــ کُحُوصًا الاثرُ: نشان مٹنا، ـــ الظلیمُ: شترمرغ کا زمین میں اس طرح جانا کہ وہ دکھائی نہ دے۔ ـــ الرجلُ: پیٹھ موڑ کر بھاگنا۔ ـــ کَحصًا البِلٰی فلانا: کومٹانا، محوکرنا۔ ـو کَحَّصَ الاثرَ: نشان مٹانا۔ الکَاحِصُ (فا) مونث کَاحِصَة ج کَوَاحِصُ: نشان محوکرنے والا۔ اَطلَالٌ کَوَاحِصٌ: مکان کے مٹے ہوئے نشانات۔

۲۔ کَحَصَ ـَ کَحصًا برجله: پاؤں سے کریدنا۔ ـ الارضَ: زمین سے غبار اڑانا۔ ـــ الشیئ: کوکوٹنا۔ الکَاحِصُ (فا) مونث کَاحِصَةٌ ج کَوَاحِصُ: پاؤں سے کریدنے والا۔

کحط: ۱۔ کَحَطَ ـَ کَحطًا العامُ: خشک سالی ہونا۔ صفت کَاحِطٌ۔

کحف: الکُحُوفُ: جسم کے اعضاء، عام لوگ بولتے ہیں۔ کَحَفَ مؤخَّرَ حذائِه: (جوتی کا پچھلا حصہ اندر کو موڑنا)۔

کحل: ۱۔ کَحَلَ ـُ کَحلًا ـ العینَ: آنکھوں میں سرمہ لگانا ـــ فلانًا: کی آنکھوں میں سرمہ لگانا صفت کَاحِلٌ و کَحَّالٌ کہاوت ہے۔ کَحَلَ السُّهَادُ عَینَهُ: بیداری اور بےخوابی سے کنایہ ہے۔ ـَ کَحلًا و اَکحَلَ المکانُ بالخضرة: کسی جگہ نباتات کی ابتدائی سبزی ظاہر ہونا۔ کَحِلَ ـَ کَحَلًا الرجُلُ: سرگیں آنکھوں والا ہونا۔ ـــ ت العینُ: آنکھ کا سرگیں ہونا۔ کَحَّلَ العینَ: آنکھ میں سرمہ لگانا۔ فلانا: کی آنکھ میں سرمایہ لگانا۔ تکَحَّلَ: آنکھ میں سرمہ لگانا۔ ـ المکانُ بالخضرة: کسی جگہ ابتدائی سبزی ظاہر ہونا۔ اِکتَحَلَ: سرمہ لگانا۔ ـــ السهادَ: بیدار رہنا، نیند نہ آنا۔ ـ المکانُ بالخضرة: کسی جگہ نباتات کی ابتدائی سبزی ظاہر ہونا۔ ـ وجهُهُ بالهمّ: چہرے پر رنج کے اثرات ظاہر ہونا، کہاجاتا ہے مَا اکتَحَلَت عَینِی بِكَ: (میں نے تمہیں نہیں دیکھا)۔ اِکحَالَّ تِ العینُ: آنکھ کا سرگیں ہونا۔ ـ المکان بالخضرة: کسی جگہ پہلی سبزی ظاہر ہونا۔ الکُحلُ: سنگ سرمہ، شفایابی کے لئے آنکھ میں ڈالی جانے والی چیز۔ الکُحلِیُّ: سرمہ ساز۔ الکِحُلُ والکَحلَةُ تعویذ کا مہرہ یا نظربد کا مہرہ۔ الکَحَلُ: پیدائشی طور پر پلکوں والی جگہ کا سیاہ ہونا ضرب المثل ہے۔ لیس التکحل فی العینین کالکَحَل: آنکھوں میں سرمہ لگانا پلکوں والی جگہ کی سیاہی جیسا نہیں عَینٌ کَحِلٌ و کَحِیلٌ و کَحِیلَةٌ ج کَحلٰی و کَحَائِلُ: سرگیں آنکھ۔ الکِحَال: سنگ سرمہ، تعویذ کا مہرہ، یا نظربد کا مہرہ۔ اَعیُنٌ کُحَلَاءُ: سرگیں آنکھیں کحائل کی طرح۔ الاَکحَلُ مونث کَحلَاءُ ج کُحلٌ: سرگیں آنکھ والا۔ الکَحلَاءُ مونث الاکحل کی: وہ عورت جس کی آنکھیں بہت سیاہ ہوں، سفید جسم اور سیاہ آنکھوں والا مینڈھا۔ الکُحَیلُ: نفط یا قطران جو اونٹوں پر ملاجاتا ہے۔ المِکحَلُ والمِکحَالُ: سرمہ کی سلائی۔ المُکحُلَةُ: سرمہ دانی۔ المُکَحَّلَةُ (ن): ایک خوبصورت پھولدار پودا جو مشرق وسطی کے خشک علاقوں خصوصا لبنان میں اگتا ہے اس کے پھول نیلے رنگ کے ہوتے ہیں جس کی خوشبو بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے یہ ہالینڈ میں خاص طور پر اگایا جاتا ہے اس کی مختلف شکلیں اور مختلف رنگ ہوتے ہیں۔

۲۔ کَحَلَ ـَ کَحلًا العامُ: سخت خشک سالی ہونا۔ ـــ ت السنونَ القومَ: کوقحط لاحق ہونا۔ اَکحَلَ العامُ: سخت خشک سالی ہونا۔ اِکتَحَلَ فلانٌ: نرمی کے بعد سختی میں مبتلا ہونا۔ الکَحلُ (مص): سخت قحط کا سال۔ کَحَلُ و کُحَلُ و کَحلَةُ: (غیر منصرف) آسمان

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے نام ہیں کہا جاتا ہے۔ صَرَّحَتْ کُحْلُ: (جبکہ آسمان میں بادل نہ ہوں)۔

٣۔ الکُحُلُ: مالِ کثیر۔ الکُحُوْلُ او الکُحُوْلُ الاِتِیْلِیْکُ او الاِیْتَانُوْلُ: عام لوگوں کی زبان میں اس کو سپرٹ (ك) بولا جاتا ہے: سپرٹ، الکحل (Alcohal) الکُحُوْلَات (ك): بنیادی طور پر الکحول الاتیلیك: کے خواص کا حامل مواد۔ الاَکْحَلُ: بازو کی ایک شریان کا نام جس کی فصد کھولی جاتی ہے۔ الکَحْلَاءُ والکُحَیْلَاءُ: (ن) جسے ''لسان الثور'' بھی کہا جاتا ہے۔ جنگلی گھاس پھوس جس پر خوشنما نیلے پھول لگتے ہیں۔ Blue weed۔

○ مااکْتَحَلَ غَمَاضًا (یا غِمَضًا): نیند نہ آنا، کُحْل جمع اَکْحَال: سرمہ پوٹے رنگنے کی کوئی چیز، کَحَل: کناروں، پپوٹوں کو کالا کرنا۔ کَحِل: سرمہ سے سیاہ کیا ہوا، کالے کئے ہوئے پپوٹے۔ کُحَیْلِی: گہرا نیلا۔ کُحْلَة: دیوار کے جوڑوں کو بھرنا۔ اَکْحَل مونث کَحْلَاء جمع کُحْل: سیاہ (آنکھ) الأَکْحَل: بازو کی درمیانی رگ کَحْلَاء: ایک قسم کی نیل جھاڑی۔ کَحِیل جمع کَحَائِل: سرمہ سے کالا کیا ہوا پپوٹہ، شریف ترین نسل کا گھوڑا۔ کُحُول: الکحل، سپرٹ۔ الکُحُولِی: الکحلی، نشہ آور۔ کُحَیْلِی و کُحَیْلَان: شریف ترین نسل کا گھوڑا۔ کِحَال: پیا ہوا سرمہ۔ الکَحَّال: آنکھوں کا ڈاکٹر مِکْحَل و مِکْحَال: سرمہ لگانے کی سلائی۔ مُکْحُلَة جمع مَکَاحِل: کحل کا برتن، شمسی ربع دائرہ، رائفل، گن، کاحِل جمع کَوَاحِل: ٹخنہ کی ہڈی۔

کحی، کَحِيَ یَکْحَی کَحْیًا الشَّیْءُ: خراب ہونا۔

کخ: کَخَّ ـِ کَخًّا و کَخِیْخًا فی نومہ: خراٹے لینا۔ کِخْ و کَخْ: (کاف کی زبر اور زیر کے ساتھ) جب بچے کو کسی چیز کے پکڑنے سے روکنے یا کسی چیز سے بچانے کے لئے ڈانٹ کر آواز دی جاتی ہے اسے کخ کہتے ہیں۔

○ کِخْیَة و کاخِیَة جمع کَوَاخ: خانسامہ، جہاز کا ملازم (مسافروں کی خدمت کے لئے)

کد: ١۔ کَدَّ ـُ کَدًّا: کام میں محنت کرنا، روزی تلاش کرنا۔ مانگنے میں اصرار کرنا۔ الراسَ: سر میں کنگھی کرنا یا سر کو خوب کھجانا۔ ــــ الرجلَ: کو تھکانا۔ کَدَّدَهٗ: کو تختی سے ہٹانا۔ تَکَدَّدَ: تکلیف برداشت کرنا۔ اِکْتَدَّ واِسْتَکَدَّهٗ: سے کام میں محنت کرانا۔ الکَدُّ (مص): جس میں کوئی چیز کوٹی جائے جیسے (ہاون دستہ) محاورہ ہے۔ لَیْسَ ھٰذَا مِنْ کَدِّكَ وَلَامِنْ کَدِّ اَبِیْكَ: (یہ تمہاری اور تمہارے باپ کی کوشش سے حاصل نہیں ہوئی)۔ الکِدَّةُ: سخت زمین کیونکہ اس پر چلتے ہوئے چوپایوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ الکَدُوْدُ: سخت محنتی آدمی بِئْرٌ کَدُوْدٌ: وہ کنواں جس کا پانی مشکل سے نکل سکے۔ الکَدِیْدُ: سخت زمین، وادی سے زیادہ فراخ زمین، موٹا پسا ہوا نمک۔ ــــ قَوْمٌ اَکْدَادٌ و اَکَادِیْدُ: شکست خوردہ لوگ (ان الفاظ کا واحد مستعمل نہیں ہوتا) محاورہ بولا جاتا ہے۔ رأیتُھم اَکْدَادًا و اَکَادِیْدَ: (میں نے انہیں ٹولیوں کی شکل میں دیکھا) اور ''اِبِلٌ اَکْدَادٌ'': تیز چلنے والے اونٹ۔ المِکَدُّ: کنگھی۔ المَکْدُوْدُ: (مفع) مغلوب۔ ــــ اَرْضٌ مَکْدُوْدَةٌ: کھروں سے روندی ہوئی زمین۔

٢۔ کَدَّ ـُ کَدًّا و اِکْتَدَّ الشَّیْءَ: کسی چیز کو ہاتھ سے چھیننا۔ الکُدَدَةُ و الکَدَدَةُ: ہانڈی کی کھرچن۔ ہانڈی کا باقی ماندہ کھانا۔ الکُدَادَةُ: بمعنی الکُدَدَةُ۔ کُدَادَةُ السَّمَنِ: گھی کی تلچھٹ۔ ـ کُدَادَةُ الکَلَاءِ: تھوڑی گھاس۔ الأَکِدَّةُ: چری ہوئی چراگاہ کا بقیہ حصہ۔

٣۔ کَدَّ ـُ کَدًّا: سائل کی طرح انگلی سے اشارہ کرنا۔

٤۔ اَکَدَّ و اِکْتَدَّ: روک لینا، کنجوسی کرنا۔ الکَدُوْدُ: کنجوس۔

٥۔ کَدْکَدَ الرجلُ: زور سے ہنسنا۔ چلنے میں بوجھ محسوس کرنا۔ ــــ علیه: پر حملہ کرنا۔ وتَکَدْکَدَهٗ: کو تختی سے ہٹانا۔ الکَدْکَدَةُ (مص): کسی سخت چیز پر کوئی چیز مارنے کی آواز۔

○ کَدَّ ـُ کَدًّا: سخت محنت کرنا، کوشش کرنا، زور لگانا، جدوجہد کرنا، مشقت کرنا، جان مارنا۔ ـ هٗ: کو تھکا دینا، کَدَّدَهٗ: کو ہٹانا، کا پیچھا کرنا، کو دور کرنا۔ اِکْتَدَّ و اِسْتَکَدَّهٗ: کو تھکا دینا، دور کرنا، تیزی سے بھیجنا، پر زور دینا۔ کَدّ: تکلیف، بڑی محنت اور کوشش، سخت محنت، مشقت، جانفشانی۔ کَدُوْد: محنتی، سخت محنت کرنے والا، مستعدی سے کام کرنے والا مَکْدُوْد: تھکا ہوا، جس نے بہت زیادہ کام کر ڈالا ہو۔

کدأ: ١۔ کَدَأَ ــ کَدْأً و کُدُوْءًا النبتُ: نباتات کا سردی یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا جانا اور نہ بڑھنا۔ و کَدَأَ البَرْدُ النَّبَاتَ: سردی کا نباتات کو زمین سے اوپر نہ بڑھنے دینا۔ کَدِیءَ ــ کَدَءًا او کُدُوْءًا النبتُ: نباتات کا سردی یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا جانا یا اگنے میں دیر کرنا ــ کَدَأَ البَقْلُ: سبزیوں کا چھوٹا اور خراب ہونا۔ ــ تِ الاِبِلُ: اونٹوں کا کم بالوں والا ہونا۔ اَرْضٌ کَادِئَةٌ: دیر سے اگانے والی زمین۔ اِبِلٌ کَادِئَةُ الاَوْبَارِ: کم بال والے اونٹ۔

٢۔ کَدِیءَ ــ کَدْأً الغُرَابُ: کوے کا قے کرنے جیسی آواز نکالنا۔

کدب: الکَدْبُ و الکُدْبُ و الکَدَبُ واحد کَدْبَةٌ: جوانوں کے ناخنوں کی سفیدی۔ الکَدِبُ واحد کَدِبَةٌ بمعنی الکَدْبُ ـ دَمٌ کَدِبٌ: تازہ خون۔

کدج: کَدَجَ ـ کَدْجًا الرجلُ: بقدرِ کفایت پینا۔

کدح: کَدَحَ ــ کَدْحًا فِی العَمَلِ: کام میں بہت محنت کرنا۔ ــــ لِعِیَالِهٖ: اہل وایال کے لئے رزق کمانا۔ رأسَهٗ بالمشط: کنگھی سے سر کے بالوں کو علیحدہ کرنا۔ ــــ و کَدَّحَ الوجهَ: چہرے کو نوچنا۔ تَکَدَّحَ الجلدُ: پر خراش آنا، کہا جاتا ہے۔ وَقَعَ مِنَ السَّطْحِ فَتَکَدَّحَ: (وہ چھت سے گر پڑا اور اسے خراش آئی۔ اِکْتَدَحَ لعیاله: اہل واعیال کے لئے رزق کمانا۔ الکَدْحُ (مص) ج کُدُوْحٌ خراش۔

○ کَدَحَ ـ کَدْحًا فی: میں یا کے ساتھ بہت محنت کرنا، مشقت کرنا۔ کَدْح: محنت، مشقت تندہی، سرگرمی، سعی، جدوجہد، غلامانہ کام۔

کدر: ١۔ کَدَرَ ـُ و کَدُرَ ـُ و کَدِرَ ـَ کَدَرًا و کَدَارَةً و کُدُوْرًا و کُدُوْرَةً و کُدْرَةً: گدلا ہونا، میالا ہونا۔ العیشُ: زندگی تلخ ہونا، کہا جاتا ہے۔ کَدِرَ عَلَیَّ فُلَانٌ: وہ فلاں پر غضبناک ہوا۔ کَدَّرَ الشیءَ: کو گدلا کرنا، میلا کرنا، کہا جاتا ہے۔ کَدَّرَ عَیْشَ فُلَانٍ: اس نے فلاں کی زندگی تلخ کردی۔ ــ الرجلَ: کو غمگین کرنا۔ تَکَدَّرَ الشیءُ: بمعنی کَدِرَ۔ علیه: وہ فلاں پر غضبناک ہوا۔ بعض دفعہ یہ مِنْ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے۔ تَکَدَّرَ منه۔ اِکْدَرَّ الشیءُ: گدلا ہونا۔ الکَدْرُ و الکَدِرُ و الکَدِیْرُ من العیش او الالوان وغیر ذالك: تلخ، غیر صاف، میلا، گدلا۔ الکُدْرَةُ (مص) من الالوان: میالا رنگ۔ الکَدَرَةُ ج کَدَرٌ: باریک بادل۔ من الحوض: حوض کی کیچڑ یا کائی وغیرہ۔ الکُدْرِیُّ (ح): یہ قطا کی قسم کا پرندہ ہے جس کی پیٹھ کا رنگ میالا اور سیاہی مائل اور گردن زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ والکُدَارِیُّ: باریک بادل۔ الکُدَارَةُ: ہانڈی میں گھی کی تلچھٹ۔ الاَکْدَرُ مونث کَدْرَاءُ ج کُدْر: میالا۔ عَیْشٌ اَکْدَرُ: مکدر زندگی۔

٢۔ کَدَّرَ الماءَ: پانی گرانا۔ اِنْکَدَرَ فی السیر: تیز دوڑنا چلنا۔ علیه القومُ: قوم کا کسی پر ٹوٹ پڑنا۔ ــ تِ النجومُ: بکھر جانا۔ الاَکْدَرُ مونث کَدْرَاءُ ج کُدْرٌ: سخت سیلاب۔

٣۔ الکَدَرَةُ ج کَدَرٌ: کٹی ہوئی کھیتی کا ایک مٹھا۔ الکُدْرُ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مونث کُدُرَۃٌ: موٹا قوی گھٹے بدن والا جوان۔ حِمَارٌ کُدُرٌ: موٹا گدھا۔

۞ کَدَّرَ ہ علیٰ: کو کے لئے خراب کرنا، کے سکون میں خلل ڈالنا۔ تَکَدَّرَ من: کسی بات پر ناراض ہونا، غصہ ہونا، پریشان ہونا، ـــ سے دل کو ٹھیس پہنچنا، کا پر ناگوار گزرنا، کا کو برا لگنا پر یا کے بارے میں چڑ چڑا ہو جانا۔ اِنْکَدَرَ: میلا ہو جانا، گدلا ہو جانا، سپاٹ ہونا، پرندہ کا جھپٹنا۔ کَدَر: میلا پن، گدلا پن، پریشانی کُدْرَۃ: گدلا پن، میلا پن، تاریکی، کَدَرَۃ: گندگی یا غلاظت کا ڈھیلا۔ کَدِر و کَدِیر: میلا، گدلا، غلیظ، تاریک، دھندلا، پریشان، مضطرب۔ تَکْدِیر: پریشان کرنا، دل کو ٹھیس پہنچانا، ٹھیس، ناراضگی، غصہ، رنجش، برملا توہین، گستاخی، بدسلوکی، مُتَکَدِّر من: پر ناراض، غصے، سے چوٹ کھایا ہوا، پریشان، دل کو ٹھیس پہنچا ہوا۔

کدس ۱۔ کَدَسَ ـِ کَدْسًا و کُدَاسًا ہُ: کو دفع کرنا۔ ہٹانا ـــ المُثْقَلُ فی سیرِہٖ: گرانبار انبار آدمی کا دوڑنا۔ تَکَدَّسَ الرجُلُ: کندھے ہلاتے ہوئے دوڑنا اور چلتے ہوئے سینہ ابھارنا ـــ الفرسُ: گھوڑے کا گرانبار کی طرح چلنا۔

۲۔ کَدَسَ ـِ کَدْسًا و کُدَاسًا ت الخیلُ: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا۔ بہ الارضَ: کو پچھاڑنا۔ و۔ کَدْسًا و کَدَّسَ الحصیدَ: کٹی ہوئی کھیتی کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر لگانا۔ تَکَدَّسَ: ڈھیر کا ایک دوسرے کے اوپر ہونا ـــ ت الخیلُ: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا۔ الکُدْسُ ج اَکْدَاس: کٹی ہوئی کھیتی یعنی دانوں کا ڈھیر۔ اَکْدَاسُ الرَّملِ: ریت کا تہ بتہ ڈھیر۔ الکُدَاسُ من الثلج او الحصید وما اشبہ: برف یا کٹی ہوئی کھیتی وغیرہ کا ڈھیر۔ الکُدَاسَۃُ: ایک دوسرے پر جمع کیا ہوا ڈھیر۔ الکُدَّاسُ ج کَدَادِیسُ: کٹی ہوئی کھیتی یعنی دانوں کا ڈھیر۔ المُتَکَادِسُ (فا) من الشجر: گنجان درخت۔

۳۔ کَدَسَ ـِ کَدْسًا و کُدَاسًا ت الدابۃُ: چوپائے کا چھینکنا۔ کَدْسًا: بدفالی لینا۔ الکَادِسُ ج کَوَادِسُ: چھینک وغیرہ جس سے بدفالی لی جائے۔ الکُدْسَۃُ و الکُدَاسُ: جانوروں کی چھینک، کبھی انسانوں کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

۞ کَدَسَ ـِ کَدْسًا و کَدَّسَ ہ: کو ڈھیر کرنا، کا انبار لگانا، کو دبانا۔ تَکَدَّسَ: ڈھیر لگنا، ڈھیر ہونا، دبنا۔ کُدْس جمع اَکْدَاس: ڈھیر، انبار، (بھوسے وغیرہ کا لیپا ہوا) ڈھیر۔ کُدَّاس ج کدادیس بمعنی سابق کُدَاسۃ بمعنی سابق تکدیس: (بھوسے وغیرہ کا) لیپا ہوا، ڈھیر، ڈھیر، انبار۔

کدش۔ کَدَشَ ـِ کَدْشًا ہُ: کو خراش لگانا، تلوار یا نیزہ سے مارنا، کاٹنا۔ الکُدُوشُ: زخم، کہا جاتا ہے۔ جِلْدٌ کَدِش: خراش زدہ کھال۔

۲۔ کَدَشَ ـِ کَدْشًا ہُ: کو سختی سے ہٹانا، ہانکنا، نکالنا۔ تَکَدَّشَ الرجُلُ: پیچھے سے دھکا دیئے جانے کی وجہ سے گر جانا۔

۳۔ کَدَشَ ـِ کَدْشًا لعیالہ: اپنے اہل وعیال کے لئے حیلہ کرنا اور محنت ومشقت سے کمائی کرنا۔ و اَکْدَشَ و اِکْتَدَشَ من فلان عطاءً: سے کو حاصل کرنا۔ الکَدَّاش: بہت کمائی کرنے والا۔ باصرار مانگنے والا۔

۴۔ اَکْدَشَ بخبر: تھوڑی سی خبر دینا۔

۵۔ الکَدِیشُ مونث کَدِیشَۃٌ ج کُدُشٌ: عام سا گھوڑا (عامی زبان) وہ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ کَدَّشَ الجَوَادُ: دوڑنے اور حملہ کرنے والا گھوڑا عام گھوڑا ہو گیا۔

۞ کَدِیش جمع کُدُش: چھکڑے کا گھوڑا، چھوٹا گھوڑا، ٹٹو، سواری کا ٹٹو، تھکا ہوا گھوڑا، مریل، ناکارہ گھوڑا (مزاحا)

کدع: کَدَعَ ـَ کَدْعًا ہُ: کو ہٹانا، دفع کرنا۔ الکُدْعَۃُ: ذلیل ورسوا۔

کدف: اَکْدَفَ الفرسُ: گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سنائی دینا۔ الکَدَفَۃُ: ٹاپ یا چاپ کی آواز۔

کدم: کَدَمَ ـِ کَدْمًا: اگلے دانتوں سے کاٹنا۔ کَادَمَ ت الدابۃُ الحشیشَ: چوپائے کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔ تَکَادَمُوا بالافواہ: ایک دوسرے کو دانت سے کاٹنا۔ الکَدْمُ (مص) ج کُدُوم: اثر، نشان۔ الکَدَمُ: دانت سے کاٹنے کا نشان۔ الکَدَم واحد کَدَمَۃٌ: بہت نشانوں والا، بہت لڑاکا (ح): سبز سر والی کالی ٹڈی۔ الکُدْمَۃُ: کَدَم کا اسم مرہ، داغ، نشان۔ الکُدَامُ: ہر چیز کا بقیہ حصہ، جیسے چری ہوئی چراگاہ کا، گھاس کی جڑیں جو پانی پڑنے کے بعد پھر اگ آئیں۔ الکُدَامَۃُ: کھائی ہوئی چیز کا بقیہ حصہ، دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔ الکَدَّام و الکَدُوم: دانت سے کاٹنے والا۔ المَکْدَمُ: دانت سے کاٹنے کی جگہ۔ المُکَدَّمُ: دانت سے کاٹا ہوا۔ رَجُلٌ مُکَدَّمٌ: جنگ کا زخمی۔

۲۔ کَدَمَ ـُ کَدْمًا الصیدَ: شکار کو بھگانا، کہا جاتا ہے۔ کَدَمَ فی غیرِ مَکْدَمٍ: بے موقع طلب کیا۔

۳۔ [illegible] من الحبال والاکسیۃ: مضبوط بٹی ہوئی رسی اور مضبوط بنا ہوا کپڑا۔ اَسِیرٌ مُکْدَمٌ: رسی سے بندھا ہوا قیدی۔ قَدَحٌ مُکْدَمٌ: موٹے شیشہ کا پیالہ۔

۴۔ الکُدَامُ: بوڑھا مرد۔

۞ کَدْمَۃ جمع کَدَمات: دانت کا زخم، ہلکا زخم، خراش، گپت مار، بھیتری مار، اندرونی مار۔

کدن: ۱۔ کَدَنَ ـُ کَدْنًا بالثوب: پٹکا باندھنا۔ الکَدْنُ و الکِدْنُ ج کُدُونٌ: کپڑا جس کو عورت پردہ میں رہتے ہوئے پہنے، پالکی، کجاوہ۔

۲۔ کَدَنَ ـُ کَدْنًا الفدَّانَ(ز): زمین میں ہل چلانے کے لئے بیلوں کی جوڑی بنانا (عامی زبان)۔ الکَدْنَۃُ: زمین کا رقبہ جس میں ایک دن میں ہل چلایا گیا ہو (عامی زبان میں)

۳۔ الکَدْنُ و الکِدْنُ ج کُدُونٌ: جانور کی ٹانگ کی کھال جس کو دباغت دینے کے بعد دوا وغیرہ کوٹنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ الکَدَنُ: میالہ۔ الکَدِنُ مونث کَدِنَۃ ج کَدِنَاتٌ: بہت چربی اور گوشت والا۔ الکِدْنَۃُ: کوہان ـــ و الکُدْنَۃ: چربی اور گوشت کی بہتات ـــ الکَدَانَۃ: نااہلی فرومائیگی۔ الکَدَّانُ: نرم پتھر (یہ کَذَّان کی تحریف ہے)۔ اس کے ایک ٹکڑے کو کَدَّانَۃ کہتے ہیں۔

کدہ: کَدَہَ ـَ کَدْہًا الشیءَ: کو توڑنا۔ ہ بالحجر: کو پتھر سے سخت رگڑنا ـــ شعرَہ بالمشط: بالوں میں کنگھی سے مانگ نکالنا ـــ لاھلہ: مشقت سے عیال کیلئے کمائی کرنا ـــ ہُ الھمُّ: کو غم کا مشقت میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے۔ "ھو مکدوہ من الھم": (وہ غم کی وجہ سے غمگین ہے)۔ ـــ علیہ: پر غالب ہونا۔ کَدَّہَ الشیءَ: کو توڑنا ـــ ہ بالحجر: کو پتھر سے سخت رگڑنا۔ ـ ہُ الھمُّ: کو غم کا مشقت میں ڈالنا۔ ـ علیہ: پر غالب آنا۔ تَکَدَّہَ: ٹوٹنا۔ الکَادِہُ (فا) ج کُدَّہٌ: توڑنے والا۔ الکَدْہُ (مص) ج کُدُوہٌ: پتھر کی رگڑ کا اثر۔

کدو: کَدَا یَکْدُو کَدْوًا و کُدُوًّا الزرعُ: خراب فصل ہونا ـــ ت الارضُ: کے پودوں کا دیر سے اگنا۔ کِدَاءَ الشیءَ: کو کاٹنا، کو منع کرنا۔

کَدِیَ یَکْدَی کَدًی بالعظم: ہڈی کا گلے میں اٹکنا۔ المسکُ: بے خوشبو ہونا صفت کَدٍ و کَدِیٌّ۔ ت اصابعُہ: کی انگلیوں کا کھودنے کی وجہ سے تھکنا۔ تَکَدَّی تَکَدِّیًا: مشقت برداشت کرنا۔

کدی: ۱۔ کَدَی یَکْدِی کَدْیًا الرجُلُ: دینے میں بخل کرنا ـــ الرجُلَ: کو روکنا، مشغول کرنا۔ کَدَّی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تَکْدِیَةً: سوال کرنا، خیرات مانگنا۔ اَکْدٰی اِکْدَاءً: دینے میں بخل کرنا۔۔۔ المطرُ: بارش کم ہونا۔۔۔ العامُ: خشک سالی ہونا۔ المعدنُ: جوہر نہ بنانا۔ النبتُ: سردی کی وجہ سے چھوٹا ہونا۔۔۔ الرجُلُ: مالدار ہونے کے بعد محتاج ہونا۔ حاجت میں ناکام رہنا۔ الحافرُ: کھودتے کھودتے سخت زمین پر پہنچنا اور آگے نہ کھود سکنا، کہا جاتا ہے۔ حَفَرَ فاکدٰی: یعنی اس نے اسے کھودا تو سخت زمین پایا، ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ سأله فاکدٰی: یعنی اس نے اس سے سوال کیا تو اسے سخت زمین کی مانند پایا۔۔۔ ہ عن کذا: کو سے باز رکھنا، منع کرنا۔ تکَدّٰی تکَدِّیًا: عطیہ طلب کرنا اور سوال کرنے میں تکلف کرنا۔ الکادِیَةَ: زمانہ کی سختی۔ الکُدْیَةُ ج کُدًی: عطیہ طلب کرنا، باصرار مانگنے کا پیشہ، سخت ٹھوس زمین، بڑی سخت چٹان، زمانے کی سختی۔

۲۔ کَدٰی یَکْدِیُ کَدْیًا الوجہَ: چہرے میں خراش لگانا۔

۳۔ الکُدْیَةُ، والکَدَاةُ والکُدَایَةُ: مٹی یا غلے کا ڈھیر۔

کذ: کَذَّ ـُ کَذًّا: کھردرا ہونا۔ أَکَذَّ: نرم پتھر پر چلنا۔ الکَذَّانُ واحد کَذَّانَةٌ: نرم پتھر۔

کذب: کَذَبَ ـِ کَذِبًا و کِذْبًا و کَذْبَةً و کِذْبَةً و کِذَابًا و کِذَّابًا: جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر غلط خبر دینا۔۔۔ تِ العینُ: دھوکہ دینا۔۔۔ الرائُ: خلاف واقعہ ہونا، کہا جاتا ہے۔ کَذَبَتْکَ عَیْنُکَ: یعنی تیری نظر نے تجھے دھوکہ دیا۔ کَذَبَ السیرَ: چلنے میں کوشش نہ کرنا۔ کذب القومُ السُّرٰی: لوگ رات کو چلنے پر قادر نہیں ہوئے، یہ کبھی دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ کذبۃُ الحدیثَ جبکہ غلط خبر دے اور خلاف واقعہ بیان کرے اور مشدد ہونے کی صورت میں صرف ایک ہی مفعول آتا ہے۔ کُذِبَ الرجُلُ: جھوٹی خبر دیا جانا۔ کَذَّبَ ہٗ: کو جھوٹا بنانا، جھوٹ کی طرف نسبت کرنا۔۔۔ ذ نفسَهُ: جھوٹ بولنے کا اقرار کرنا۔۔۔ عن فلان: فلاں کی طرف سے جواب دینا۔۔۔ عن امر اَرَادَہٗ: سے رک جانا۔۔۔ عَنّا الحرُّ: سے گرمی کا کم ہونا کہا جاتا ہے مَا کَذَّبَ ان فعل کذا: یعنی اس نے ایسا کرنے میں دیر نہیں کی۔۔۔ تَکْذِیبًا و کِذَّابًا بالامر: کا انکار کرنا، کہا جاتا ہے۔ کَذَّبَ بِاٰیاتِ ربِّهِ: اس نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا۔ کَاذَبَ کِذَابًا و مُکَاذَبَةً ہٗ: کسی کو یہ کہنا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے۔ اَکْذَبَ ہٗ: کو جھوٹ پر آمادہ کرنا۔ کو جھوٹا پانا۔ کا جھوٹ ظاہر کرنا۔۔۔ نفسَهُ: جھوٹ بولنے کا اقرار کرنا کہا جاتا ہے اَکْذَبَ فُلَانٌ: جبکہ اسے آواز دی جائے اور وہ خاموش پڑا رہے یہ ظاہر کرے گویا وہ سویا ہوا ہے اس سے اسم الاِکْذَابُ ہے تَکَذَّبَ: بتکلف جھوٹ بولنا۔۔۔ فلانًا وعلیه: کو جھوٹا سمجھنا۔ تکاذَبَ القَوْمُ: ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا۔ الکَاذِبُ ج کَذَبَةٌ و کُذَّابٌ و کُذُبٌ (فا): جھوٹا۔ الکَاذِبَةُ ج کَاذِبَاتٌ و کَوَاذِبُ: جھوٹی، جھوٹ۔ الکَذَّابُ بتثلیث الکاف و الکُذْبٰی و الکُذْبَانُ: جھوٹ۔ الکَذَّابُ و الکُذَبَةُ و التِّکِذَّابُ و المَکْذَبَانُ و المَکْذَبَانَةُ: بڑا جھوٹا۔ الکَذَّابَةُ مختلف رنگوں سے منقش کیا ہوا کپڑا جو ایسا دکھائی دے جیسے اس پر اصلی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ الکَذُوبُ: نفس۔ (کیونکہ یہ انسان کو ایسی چیزوں کی آرزو دلاتا ہے جو انسان کی پہنچ اور بساط سے باہر ہوتے ہیں)۔۔۔ ج کُذُبٌ و الکَذْبَانُ و الکَیْذَبَانُ و الکَیْذُبَانَ: بڑا جھوٹا۔ الکَذُوبَةُ: بڑا جھوٹا نفس۔ الاُکْذُوبَةُ ج اَکَاذِیبُ: جھوٹ۔ التَّکَاذِیبُ: لغو باطل باتیں۔ المَکْذَبَةُ والمَکْذُبَةُ ج مَکَاذِبُ والمَکْذُوبُ والمَکْذُوبَةُ ج مَکَاذِیبُ: جھوٹ۔

○ کَذَبَ ـِ کِذْبًا و کَذِبًا و کَذْبَةً و کِذْبَةً: جھوٹ بولنا، دھوکا دینا، گمراہ کرنا، بہکانا۔۔۔ ہ/ علی: سے جھوٹ بولنا۔ کَذَّبَ ہ: کو جھوٹا کہنا، پر جھوٹ کا الزام لگانا، پر یقین نہ کرنا، کی بات کو باور نہ کرنا۔۔۔ ب/ ہ: کو غلط ثابت کرنا، کو تسلیم نہ کرنا، کو ماننے یا پہچاننے سے انکار کرنا، کی تردید کرنا۔ ما کَذَّبَ أن فعل وہ ایسا کرنے میں نہ ہچکچایا۔ اَکْذَبَ ہ: سے جھوٹ بلوانا، کو جھوٹا کہنا، کو جھوٹا ثابت کرنا۔ پر جھوٹ کا الزام لگانا۔ کِذْب و کَذِب و کَذْبَة و کِذْبَة: جھوٹ، فریب، دھوکا، چال، داؤ و مکر، دغا، دروغ۔ کذب، کذبة ابریل: اپریل فول کا مذاق کَذُوب: جھوٹا۔ کَذّاب: جھوٹا، ٹھگ، دھوکے باز، عیار، فریبی، اُکْذُوبَة جمع اَکَاذِیب: جھوٹ۔ اَکْذَب: زیادہ جھوٹا۔ اَکْذَبُ من مُسَیْلِمَة: مسیلمہ سے زیادہ جھوٹا (بالعموم) تکذیب: رد، تردید، تکذیب، انکار، تسلیم کرنے سے انکار۔ کاذِب: جھوٹا، دروغ گو، مغالطہ یا دھوکے میں ڈالنے والی (چیز) مغالطہ آمیز، پر فریب، بظاہر صحیح، بناوٹی، مصنوعی، فرضی، جھوٹ موٹ، امل کاذب: مغالطہ آمیز امید، بلاغ کاذِب: بہتان، تہمت، اتہام، رسوائی، بدنامی، ہتک عزت۔ مَکْذُوب: جھوٹ، غلط، گھڑی ہوئی (بات) جھوٹا (الزام وغیرہ)۔

کذو: کَذَا: یہ دو طریقوں سے مستعمل ہے۔

۱۔ یہ کہ دونوں کلمے کاف حرف تشبیہ اور ذا اسم اشارہ اپنی اصل حالت پر رہیں جیسے رایت زیدا فاضلا و رایتُ عمراً کذا: نیز اس پر ھا تنبیہ داخل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ ھٰکذَا

۲۔ یہ کہ کلمہ انہیں دونوں کلموں سے مرکب ہو لیکن عدد سے کنایہ ہو جیسے قبضت کذا و کذا درھما یا غیر عدد سے جیسے بمکان کذا و کذا یعنی کسی ایک جگہ پر۔ دیکھو ○ ک۔

کرّ: ۱۔ کَرَّ ـُ کُرُوْرًا: لوٹنا، مڑنا، کہا جاتا ہے۔ انھزم عنه ثم کر علیه: یعنی اس نے فلاں سے شکست کھائی اور پھر لوٹ پڑا، پینترا بدلنے کے لئے بھاگنا پھر دوبارہ حملہ کرنا صفت کَرَّارٌ اور اسی سے کہا جاتا ہے۔ الجواد یصلح للکرّ والفرّ: (گھوڑا گھومنے اور حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے)۔ ۔۔اللیلُ والنهارُ: رات دن کا باری باری آنا۔ کَرًّا و کُرُوْرًا و تکْرَارًا الفارسُ علی العدو: شہسوار کا دشمن پر حملہ کرنا اور ٹوٹ پڑنا۔۔۔ کَرِیْرًا المریضُ: جان دینا۔ کَرَّ ـَ کَرًّا صَدْرُہ: سے گلا گھوٹنے ہوئے کی آواز نکلنا۔ کَرَّرَ تَکْرَارًا و تکْرِیْرًا و تکِرَّةً الشیئَ: کو بار بار کرنا۔ تکَرَّرَ: بار بار ہونا۔ الکَرَّةُ ج کَرَّاتٌ: لڑائی میں حملہ، صبح و شام کو کرّتان اور قرّتان کہتے ہیں۔ الکَرّارُ: لڑائی میں بہت زیادہ حملہ کرنے والا۔ الکُرّٰی: لڑائی میں حملہ الکَرِیْرُ (مص) گلا گھٹے ہوئے کی طرح سینے کی آواز، گرد و غبار کی وجہ سے گلوگرفتگی۔ المَکَرُّ: لڑائی میں حملہ کی جگہ۔ المِکَرُّ: لڑائی میں بہت زیادہ حملہ کرنیوالا کہا جاتا ہے۔ فرس مِکَرٌّ مِفَرٌّ: ایسا سدھایا ہوا گھوڑا کہ حملہ کے وقت حملہ کرے اور سوار بھاگنے کا ارادہ کرے تو اسے لے کر بھاگ جائے۔ ناقَةٌ مِکَرَّةٌ وہ اونٹنی جس کو دن میں دو مرتبہ دوہا جائے۔

۲۔ الکُرُّ ج کِرَارٌ: کنواں۔۔۔ ج اَکْرَارٌ: ایک پیمانہ کا نام (عبرانیہ) چادر۔ الکُرُّ: ج کُرُوْرٌ: کھجور کے پتوں کی رسی۔ کھجور کے درخت پر چڑھنے کی رسی، جہاز کا رسا۔۔۔ الکَرُّ ج کِرَارٌ: کنواں و۔۔۔ ج اَکْرَارٌ و کُرُوْرٌ: نماز پڑھنے کے لئے مصلّٰی۔ الکَرَّةُ: سڑی ہوئی مینگنیاں جس سے زرہ کو صاف کرتے ہیں۔ و۔۔۔ ج کَرَّاتٌ (ع ح): ایک لاکھ۔

۳۔ کَرْکَرَ کَرْکَرَةً الشیئَ: کو بار بار دھرانا۔ ۔۔الرحی: چکی گھمانا۔۔۔ الحَبَّ: دانے پیسنا۔ الرجُلُ: ہنسنا۔۔۔ فی الضحك: بہت زیادہ ہنسنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بالدجاجة: مرغی کو بلانا۔ تکرکر فی الامر: میں مضطرب ہونا۔ الماءُ: اپنے بہنے کی جگہ پر لوٹ جانا ۔۔۔ الطائرُ: ہوا میں منڈلانا۔ الکرکرۃ: پیٹ کی گڑگڑاہٹ۔ الکُرکُورَۃ: گہری وادی۔

۴۔ کَرکَرَ کَرکَرَۃً الشیئَ: کو جمع کرنا۔۔ ت الریاحُ السحابَ: ہوا کا بادلوں کو منتشر ہونے کے بعد اکٹھا کرنا، یا بادلوں کو پھیرنا۔ الکِرکِرَۃُ ج کَرَاکِرُ: لوگوں کی جماعت۔ الکَراکِرُ: گھوڑے کے جوڑ۔

۵۔ کَرکَرَ کَرکَرَۃً الرجُلَ: کو روکنا۔۔۔ الرجُلُ: شکست کھانا۔۔۔ الامرَ عنہ: کو سے دفع کرنا، رد کرنا، ہٹانا۔

۶۔ الکُرکُرُ (ح) ایک آبی پرندہ۔ الکُرکُرۃُ: گاڑھا دودھ۔ الکِرکِرَۃُ ج کَرَاکِرُ چوپائے کا سینہ۔

○ کَرَّ ۔ُ کَرًّا و کُرُورًا و تکرارًا علی: کسی شخص یا چیز پر رخ بدل کر حملہ کرنا۔۔۔ مڑنا واپس آنا، پھر ہونا، پسپا ہونا۔۔ علی: پر حملہ کرنا، کو پچھاڑنا، زیر کرنا۔۔۔ کَرِیرًا: گلے میں کھڑکھڑ کرنا۔ کَرَّرَہ: کو دہرانا، دوبارہ کرنا، بار بار کرنا۔۔۔ ہ علی: بار بار کسی سے سوال کرنا۔۔ علی ہ: سے بار بار کوئی سوال کرنا۔۔۔ ہ: کی توضیح کرنا کو واضح کرنا، صاف کرنا، صاف یا شفاف کرنا، کی تصحیح کرنا، کو پاک کرنا، خالص بنانا (چینی وغیرہ) کو مصفے کرنا، نتھارنا۔ تکَرَّرَ: دہرایا جانا، پھر ہونا، مکرر کیا جانا، بار بار کہا جانا یا کیا جانا۔ خالص بنایا جانا۔ مُصَفّٰی کیا جانا۔ خالص کیا جانا، نتھرنا۔ کَرّ: حملہ الکرّ والفرّ: (میدان جنگ میں) حملہ اور پسپائی بین کَرٍّ و فَرٍّ: ایک ایک کرکے، باری باری سے، اپنی اپنی باری سے، رہ رہ کر، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کرنا، کبھی کم کبھی زیادہ، جھٹکوں سے، علی کرّ الدھور اور علی کرّ الزمَنِ: دوران وقت میں۔ کَرَّۃ: حملہ، واپسی، اعادہ، بار بار ہونا۔۔ جمع کَرّات: ایک وقت، ایکبار، ایک لاکھ، کَرَّۃً: ایک بار، ایک دفعہ ایک مرتبہ، کبھی کبھی، کبھی کبھار، گاہے گاہے، بعض اوقات۔ کَرَّۃً اُخرٰی: دوبارہ، ایکبار پھر۔ کَرَّۃً بَعدَ کَرَّۃٍ: بار بار، اکثر، کُرُور: واپسی، اعادہ، بار بار ہونا۔ کے بعد ہونا، کے بعد آنا، سلسلہ، ترتیب۔ کَرَّارِیَۃ جمع کَرَّارِیّات: ریل، دھاگے کی نلکی، مِکَرّ جمع مَکَرّات: ریل تکریر: دہرانا، اعادہ، بار بار دہرانا، وضاحت، تصحیح، صفائی، مصفی کرنا مَعمَل تکریر السُّکّر: چینی صاف کرنے کا کارخانہ۔ تَکرار: دہرانا اعادہ، بار بار دہرانا تَکرارًا: بار بار، مکرر، تکرار سے، تواتر سے، اکثر، بیشتر، کئی بار، مِرارًا و تکرارًا: بار بار، اکثر، مُکَرَّر: دہرایا ہوا، بار بار دہرایا ہوا، دوبار کے بعد، ایسا عدد جو دوسرے سے پورا پورا تقسیم ہو جائے، تصحیح شدہ، صاف کیا ہوا پاک کیا ہوا، سُکّر مُکَرَّر: صاف کی ہوئی چینی۔ مُتکرِّر: بار بار ہونے والا، بار بار کہا ہوا، بار بار کیا ہوا، مکرر کیا ہوا، دہرایا ہوا، متعدد بار، اکثر، اکثر اوقات، بار بار واقع ہونے والا۔

○ کَرَاج جمع کراجات: گیراج Garage

○ کَرَار جمع کرارات: مودی خانہ، نعمت خانہ، بھنڈارہ، توشہ خانہ، خانہ جہاں مختلف اشیاء رکھی جاتی ہیں۔

○ کَرَافَتَۃ: نیک ٹائی، پرانی وضع کا گلوبند۔

○ کَرَاکُوفیا: جنوبی پولینڈ کے ایک شہر کا نام (Cracow)

○ کَرَامِیل: سوختہ شکر کی مٹھائی۔

کرب: ۱۔ کَرَبَ ۔ُ کَرْبًا القیدَ علی المقیَّد: قیدی پر بیڑی کو تنگ کرنا۔۔۔ الحبلَ: رسی بٹنا۔۔۔ الدلوَ: ڈول کے دستہ میں چھوٹی رسی باندھنا۔۔۔ ہُ الامرُ: پر معاملہ کا دشوار ہونا۔۔۔ ہُ الغمُّ: کو سخت غم ہونا۔۔۔ کُرُوبًا الفاقۃَ: کو بوجھل کرنا۔ کَرِبَ ۔َ کَرَبًا الرجُلُ: ڈول کے دستہ کی ٹوٹی ہوئی رسی والا ہونا۔ کُرِبَ: کو غم لاحق ہونا۔ کَرَّبَ الدلوَ: ڈول کے دستہ پر چھوٹی سی رسی باندھنا۔ اِکتَرَبَ اِکتِرابًا و اِکرَأَبَّ اِکرِئبابًا: سخت غمگین ہونا۔ الکَربُ ج کُرُوبٌ، والکُربَۃُ ج کُرَبٌ: غم اور مشقت الکَرَبُ واحد کَرَبَۃٌ: ڈول کے دستہ پر کی چھوٹی رسی۔ الکُرَبَۃُ ج کُرَبٌ: گول لکڑی جس میں خیمہ کے ڈنڈے کا سرا رکھا جاتا ہے۔ الکَرِیبَۃُ ج کَرَائِبُ: سخت مصیبت۔ الکَرِیبُ: مغموم، غمگین۔ الکَرِیبَۃُ ج کَرائِبُ (مونث الکَرِیبُ کا) سخت مصیبت۔ المُکرَبُ: مضبوط رسی یا عمارت یا جوڑ وغیرہ۔۔ من المفاصل: پٹھوں سے بھرا ہوا۔ حافرٌ مُکرَبٌ: مضبوط کھر۔ المَکرُوبُ: غمگین۔

۲۔ کَرَبَ ۔ُ کُرُوبًا: قریب ہونا۔۔ ت النارُ: آگ بجھنے لگنا۔ ت الشمسُ: آفتاب ڈوبنے کے قریب ہونا۔۔۔ فلانٌ: کھجور کے تنے کے قریب گری ہوئی کھجوریں کھانا، کہا جاتا ہے کَرَبَ یَفعَلُ یعنی وہ کرنے لگا، اس صورت میں یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ ۔ کَرَبًا فلانٌ: گری ہوئی کھجوریں لینا۔ کَرَّبَ الرجُلُ: چنی ہوئی کھجوریں کھانا۔ کَارَبَ مُکَارَبَۃً و کِرَابًا ہٗ: کے قریب ہونا۔ اَکرَبَ: قریب ہونا۔ الامرُ: قریب الوقوع ہونا۔ [illegible] کے قریب ہونا۔۔۔ القِربۃَ: مشک بھرنا۔۔۔ فی السیر: دوڑنا۔ تَکَرَّبَ: تنہ کے قریب کی کھجوریں چننا۔ الکَرَبُ واحد کَرَبَۃ: کھجور کی ٹہنی کی موٹی چوڑی جڑیں۔ الکُرَابۃُ، والکَرَابَۃُ ج اَکرِبَۃٌ: کھجور جو ٹہنی کی جڑ سے کٹنے کے بعد چنی جائے الاکرابُ (مص): جلد بازی تم کہتے ہو۔ خذ رجلیک باکراب: یعنی جانے میں جلدی کرو۔ الکَرُوبِیُّونَ والکَرُوبِیَّۃُ واحد کَرُوبٌ: اور کبھی کاف کو شین سے بدل دیا جاتا ہے: یا اشرف ملائکہ یا مقرب فرشتے۔ عبرانی زبان میں کَرُوبِیمْ کہتے ہیں اور کبھی عبرانی لفظ کو ہی استعمال کرتے ہیں۔

۳۔ کَرَبَ ۔ُ کُرُوبًا: بے درخت اور بے پانی والی زمین میں کھیتی باڑی کرنا۔۔۔ کَرْبًا و کِرَابًا الارضَ للزرع: کھیتی کے لئے زمین میں کھیتی باڑی کرنا۔ کَرَبَ الرجُلُ: بمعنی کَرَبَ ۔ُ کُرُوبًا: الکَرِیبُ من الارض: بغیر پانی و بغیر درخت کے زمین۔

۴۔ الکَرابُ واحد کَرَبَۃٌ: وادی میں پانی بہنے کی جگہیں، کہا جاتا ہے۔ مابالدار کَرَّابٌ: یعنی گھر میں کوئی نہیں۔ الکَرِیبُ: بانس کی گرہ، نانبائی کا بیلن۔ المِکرُوبُ: (طب) ایسی زندہ کائنات جو دوربین یا خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتی، یک خلیہ جو پانی، خون یا ہوا میں ہوتا ہے یہ متعدی امراض والے مریضوں سے تندرست لوگوں کو بیماریاں منتقل کرتا ہے خلیہ یونانی لفظ ہے جس کو عربی میں جرثومہ کہتے ہیں۔

۵۔ الکُرُنبُجُ ج کَرَابِجُ: دکان یا دکان کا سامان۔ الکِربَاجُ: کوڑا (فارسی لفظ)۔ الکَرابِیجُ (ط) چند معجونوں کو ملا کر بنایا ہوا حلوہ جس کو گدر ریوڑی کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا ہے اسے کرابیج حلب: بھی کہا جاتا ہے۔

۶۔ کَربَدَ فی عَدْوِہٖ: تیز دوڑنا۔ دوڑنے میں کوشش کرنا۔

۷۔ کَربَسَ: بیڑی پہنے ہوئے کی طرح چلنا۔ تکَربَسَ من ظھر فرسہ: گھوڑے کی پیٹھ سے گر جانا۔ الکِربَاسُ ج کَرَابِیس: کھردرا کپڑا، شراب چھاننے کی چیز۔ رجلٌ مُکَربَسُ الرأسِ: گول سر والا مرد۔

۸۔ کَربَشَ: چھلانگ لگانے کے لئے ٹانگوں کو اکٹھا کرنا۔ بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔۔ الشیئَ: کو لپیٹنا اور باندھنا۔ تکَربَشَ الجلدُ: کھال کا سکڑنا۔

۹۔ کَربَعَ ہٗ: کو پچھاڑنا۔۔۔ الشیئَ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا۔۔۔ قوائمہ: کی ٹانگیں جدا کرنا۔ تکَربَعَ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چوتڑوں کے بل گرنا۔
۱۰۔ کَربَلَ: کیچڑ میں چلنا، پانی میں گھسنا۔ الشیءَ بالشیء: کو سے ملانا۔ ــ الحنطۃَ: گندم چھاننا، صاف کرنا۔ الکِربَالُ ج کَرَابِیلُ: گندم صاف کرنے والا چھلنا، روئی دھننے کی کمان۔ الکَربَلَۃُ (مص): پاؤں کی سستی، کہا جاتا ہے۔ جَاءَ یَمشِی مُکَربِلًا: یعنی وہ اس طرح آیا گویا کیچڑ میں چل رہا ہے۔
۱۱۔ الکَربُونُ او الفحیم (ك): ایک مفرد جسم جو کہ کوئلہ بنانے کی تمام اقسام کا بنیادی عنصر ہے، تمام زندہ کائنات کی ترکیب میں دخل رکھتا ہے الماس ایک صاف بلوری عنصر ہے۔ الکَربُونَاتُ: ایک سفید رنگ کا سفوف کاربونک ایسڈ Carbonic acid اور ایک اور جسم سے مرکب ہے (یونانی)۔
○ کَرَبَ ــُ کَربًا ہ: کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا، مغموم کرنا، تشویش میں مبتلا کرنا، ستانا۔ ــ ہ: جانور پر بہت زیادہ بوجھ لادنا۔ اَکرَبَ: جلدی کرنا، دوڑنا، دوڑ پڑنا۔ اِنکَرَبَ و اِکتَرَبَ: پریشان ہونا، رنجیدہ ہونا، مصیبت زدہ ہونا، تکلیف زدہ ہونا، بے چین ہونا، متفکر ہونا، بے تاب ہونا، اندیشناک ہونا، خائف ہونا، کَربٌ جمع کُرُوبٌ: پریشانی، تشویش، غم، افسوس، رنج، آزردگی، ملال، الم، مصیبت، تکلیف، اندیشہ، چنتا، تردد، فکر، خوف، خدشہ، تشویش، پریشانی، بے چینی، اضطراب، عذاب، اذیت، دماغی الجھن، ذہنی کرب۔ کُربَۃٌ جمع کُرَبٌ: بمعنی کَربٌ۔ مَکرُوبٌ و مُکتَرِبٌ: غمگین، پریشان، رنجیدہ، ملول، غم زدہ، آزردہ، تکلیف زدہ، مصیبت زدہ، خائف، بے چین، متفکر، بے تاب، ڈرا ہوا، دہشت زدہ، خوف زدہ، بوکھلایا ہوا، گھبرایا ہوا۔
○ کَرِبٌ: کریب (سیاہ، ریشم یا روئی کا شکن دار کپڑا وغیرہ)
○ کَرُوبٌ و کَرُوبِی جمع کَرُوبِیُّون و کَارُوبِیمُ: فرشتہ اعظم
○ کُرباج و کِرباج جمع کَرَابِیجُ: کوڑا، درّہ۔
○ کِرباسٌ جمع کَرَابِیسُ: سفید روئی کا کپڑا۔
○ کِربَالٌ جمع کَرَابِیلُ: روئی تومبنے کی کمان، موٹے سوراخوں والی چھلنی۔
○ کَربَلَا: عراق کے ایک شہر کا نام۔
○ کَربُون: کوئلہ ورق کربون: کاربن پیپر۔
○ کُرّات (کُرّاث): پیاز کا ساپودا، گندنا۔
○ اَکرَتُ: کھتی دار یا بل دار (بال) پیچ دار (بال) گھونگر والے (بال)
○ کَرتَنَ علی: کو قرنطینہ میں رکھنا، لمبی قید میں رکھنا۔ تَکَرتَنَ: قرنطینہ میں رکھا ہوا ہونا۔
○ کَرتُون جمع کَرَاتِین: گتا، گتے کا ڈبہ۔
کرت: کَرتَحَ ہ: کو پچھاڑنا، تَکَرتَحَ فی مشیہ: تیزی سے گزر جانا۔
کرث: ۱۔ کَرَثَ ــِ کَرثًا و اَکرَثَ الغمُّ فلانًا: کو سخت غمگین کرنا۔ اِکتَرَثَ بالامر: کی پرواہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ ھو لا یکترث لھذا الامر: وہ اس معاملہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ اِنکَرَثَ الحبلُ: رسی کا ٹوٹنا۔ الکَارِثُ مونث کَارِثَۃٌ ج کَوَارِثُ: غم انگیز معاملہ۔ الکَرِیثُ: غم انگیز معاملہ کہا جاتا ہے۔ انہ لکریث الامر: جبکہ بزدلی کرے اور پیچھے ہٹے۔
۲۔ الکُرّاثُ و الکَرّاثُ واحد کَرّاثَۃٌ: گندنا، بدبودار قسم کی سبزی، جس کی بعض قسمیں لہسن سے مشابہ ہوتی ہیں بعض قسمیں سالانہ ہوتی ہیں اور بعض اس سے بھی زیادہ دیر تک رہتی ہیں یہ ان علاقوں میں ہوتی ہیں جن کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے اس کے تنے کو پکا کر کھایا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ الاَندَلُسِیّ او القُفلُوط: یہ ایک قسم کی سبزی ہے اس کا حجم بہت چھوٹا ہوتا ہے مشرق وسطی میں کم کاشت کی جاتی ہے اس کا چھلکا مسالہ بنانے کے کام آتا ہے اس کے پتوں کو سلاد میں ملایا جاسکتا ہے۔
۳۔ کَرثًا و تَکَرثًا الشعرُ و نحوہُ: بال وغیرہ کا گنجان ہونا۔ الکِرثِئَۃُ: تہ بتہ بادل، انڈے کے اوپر کا چھلکا۔ الکِرثِئَۃُ و الکُرثَاۃُ: گنجان سبزی۔
○ کَرِثَ ــُ کَرثًا ہ: کو افسردہ کرنا، پریشانی میں ڈالنا، تشویش میں ڈالنا، مغموم کرنا، تکلیف دینا، پر دباؤ ڈالنا، کو ایذا دینا، اَکرَثَ ہ بمعنی کَرِثَ ہ۔ اِکتَرَثَ ل: کی نگہداشت کرنا، پر توجہ دینا، میں دلچسپی لینا۔ کَرِیثٌ: افسردہ، پریشان، تشویش میں مبتلا، تکلیف زدہ، روحانی اذیت میں مبتلا، تشویش زدہ، مصیبت میں مبتلا، تنگ کیا ہوا، ناراض کیا ہوا کَرّاث و کُرّاث (بمعنی کُرّات) پیاز کا ساپودا، گندنا۔ اِکتِرَاث: توجہ، نگہداشت، دلچسپی، التفات، دھیان، فکر، تشویش۔ کَارِثٌ: دباؤ ڈالنے والا، جابرانہ، ظالمانہ، تکلیف دہ، درد انگیز، ضرر رساں، قِلَّۃُ الاکتراث: بے اعتنائی، بے توجہی، عدم دلچسپی کَارِثَۃٌ جمع کَوَارِثُ: شامت، آفت، عظیم تباہی، کَارِثَۃُ الامطار: قدرتی آفت، تیز و تند بارشیں۔

کرج: کَرِجَ ــَ کَرَجًا و کَرَّجَ و اَکرَجَ و تَکَرَّجَ الخبزُ: خراب ہونا اور اس کے اوپر پھپھوندی لگنا عوام اسے عفن سے تعبیر کرتے ہیں۔ الکُرجُ واحد کُرجِیٌّ: لوگوں کی ایک قوم ــ والکُرَّجُ: بچھیرے کی شکل کی ایک چیز جس پر کھیلتے ہیں (فارسی)۔ الکُرَّجِیُّ: مخنث، ہیجڑا۔
کرح: الکُرحُ ج اَکرَاحٌ: راہب کی کوٹھری (سریانی)
کرخ: کَرَخَ ــَ کَرخًا الماءَ الی مواضعہ: کو اس کی جگہوں کی طرف چلانا۔ الکَرخَانَۃُ: کارخانہ۔ مولدین قحبہ خانہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ (فارسی)
کرد: ۱۔ کَرَدَ ــُ کَردًا الدابۃَ: کو ہانکنا۔ ــ العدوَّ: دشمن کو ہٹانا۔ کَارَدَ مُکَارَدَۃً ہ: کو دفع کرنا۔ ہٹانا۔
۲۔ کَرَدَ ــُ کَردًا الشیءَ: کو کاٹنا۔ الکَردُ: گردن کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اَخَذَہُ بِکَردِہٖ اَو بِکَردَنِہٖ: اس نے اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ کی جڑ (گدی)
۳۔ کَردَحَ: پستہ قد شخص کی طرح دوڑنا۔ تَکَردَحَ فی عَدوِہٖ: پستہ قد شخص کی طرح دوڑنا۔ جیسے لڑھک رہا ہو۔ الکُرَادِحُ: پستہ قد شخص۔ الکِردَاحُ: دوڑنے میں قریب قریب قدم رکھنے والا۔ الکَردَحَۃُ (مص): تیز دوڑ۔
۴۔ کَردَحَ فلانًا: کو پچھاڑنا۔
۵۔ الکِردِحُ: مضبوط مرد۔ بڑھیا۔ المُکَردَحُ: ذلیل و خوار۔
۶۔ کَردَسَ: بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔ ــ الخیلَ: گھوڑوں کو جمع کرنا اور دستہ دستہ بنانا۔ ــ الشیءَ: کو باندھنا اور بیڑی ڈالنا۔ کُردِسَ الرجلُ: کے ہاتھ پاؤں اکٹھا باندھا جانا۔ تَکَردَسَ: سکڑنا اور بعض کا بعض پر جمع ہونا۔ الکُردُوسُ: گدھے کی ہڈی۔ الکُردُوسَۃُ ج کَرَادِیسُ و کَرَادِیسُ: ہر ہڈی جس پر گوشت ہو۔ ہر جوڑ کی دونوں ہڈیاں، گھوڑوں کا بڑا گلہ۔ کَرَادِیسُ الفرسِ: گھوڑے کے جوڑ۔ المُکَردَسُ: گٹھے بدن والا اصل میں یہ یونانی لفظ تھا اسے عربی بنایا گیا ہے۔
۷۔ کَردَسَ الحمارَ: گدھے کو تیز ہانکنا۔ ــ ہ: کو پچھاڑنا۔
۸۔ کَردَمَ: موٹے پستہ قد کی طرح دوڑنا۔ ــ القومَ: کو جمع کرنا۔ تَکَردَمَ: گھبرا کر دوڑنا۔ الکَردَمُ ج کَرَادِمُ: بہادر ــ من الرجال: موٹا پستہ قد۔ الکُردُومُ من الرجال ج کَرَادِیمُ: موٹا پستہ قد۔
۹۔ الکَردِینَالُ ج کَرَادِلَۃٌ: (کارڈینال) گرجا کا ایک

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اونچا عہدہ۔

○ الکُرْد: کرد لوگ بلاد الکُرْد: کردستان کُرْدِی: کردی جمع اکراد: کرد لوگ جبل الاکراد: کردی پہاڑیاں، کردستان۔ کَرْدَس ہ: کا ڈھیر لگانا۔ — ہ/ہ: کو کھچا کھچ بھرنا، کا ہجوم کرنا۔

○ کِردان جمع کَرادِین: ہار، چمپاکلی۔

کرز: کَرَزَ ـِ کُرُوزًا: داخل ہونا، پوشیدہ ہونا۔ — الی فلان: کی پناہ لینا۔ کَارَزَ مُکَارَزَۃً الی المکان: دوڑ کر مکان میں چھپنا۔ — عنہ: سے بھاگنا۔ — ہ: سے بھاگنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ الکُرْزُ ج اَکْرَاز و کِرَزَۃٌ: چرواہے کا تھیلا، چھوٹی بوری۔ الکُرَازُ ج کِرْزَانُ و الکُرَّازُ: شیشی، تنگ سر والا کوزہ۔ الکَرَّازُ ج کَرَارِیْزُ (ح) چرواہے کا تھیلا اٹھانیوالا بے سینگ کا مینڈھا کیونکہ سینگوں والا مینڈھا سینگوں سے ٹکراتا رہتا ہے۔ — من المعز: گھنٹی دار بکری جس کے پیچھے ریوڑ چلتا ہے۔

۲۔ کَرَزَ ـِ کَرْزًا: وعظ کرنا اور انجیل کی بشارتیں سنانا۔ (سریانی)۔ الکَارِزُ و الکَارُوْزُ: انجیل کا واعظ۔ الکِرَازَۃُ: مسیحی حقائق کا وعظ۔

۳۔ کَرَّزَ البازیَ: باز کو سدھانے کے لئے آنکھوں کو سینا اور کھلانا حتی کہ وہ سیکھ جائے۔ الکُرَّزُ ج کَرَارِزَۃٌ (ح): باز۔ و الکُرَّزِیُّ و المُکَرَّزُ: لئیم، خبیث۔

۴۔ کُرِّزَ البازِیُ: باز کے پروں کا گرنا۔ کَارَزَ مُکَارَزَۃً القومَ: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو لینا۔

۵۔ کُرَزُ الجُعَلِ ج اَکْرَازٌ و کِرَزَۃٌ: گبریلا کی گولی۔ الکَرَزُ واحد کَرَزَۃٌ (ن) پھولوں والا ایک پودا جو ابتدائی طور پر ایران میں اگا اس کا پھل شفتالو کی طرح لیکن اس سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے اسے تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور مشروبات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اب یہ تمام معتدل آب و ہوا والے علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ (یونانی) الکُرَّزُ ج کَرَارِزَۃٌ: حاذق ماہر، نجیب۔ الکَرِیْزُ: پنیر۔

۶۔ کَرْزَمَ کَرْزَمَۃً الرجلُ: دوپہر میں کھانا۔ الکَرْزَمُ: بہت کھانے والا، چھوٹی ناک والا، کلہاڑا۔ الکِرْزَمُ ج کَرَازِمُ و الکِرْزِیْمُ ج کَرَازِیْمُ: کلہاڑا، سخت مصیبت۔

○ کَرْز و کَرَازَۃ: وعظ، انجیل کا وعظ یا خطبہ، الکَرَازَۃُ المَرْقُسِیَّۃ: عیسائی ولی مرقس کا مشرقی صوبہ (میدان)، مصری عیسائی قبیلہ کا دائرہ اختیار۔ تکریز جمع تکاریز: نیاز، نیاز، چڑھاوا، اشیرباد (عیسائیت میں)۔ کَرَز واحد کَرَزَۃ: گیلاس، شاہ دانہ۔ کَرَزِی: گیلاس جیسا سرخ۔

کرس: کَرَّسَ البناءَ: عمارت کی بنیاد رکھنا۔ اَکْرَسَ المکانُ: کا بول و براز سے لتھڑنا۔ — ہ: کو بول و براز والی جگہ میں داخل کرنا۔ تکَرَّسَ: بنیاد رکھا جانا۔ — الشیئُ: تہ بہ تہ ہونا اور سخت ہونا۔ — اُسُّ البناءِ: عمارت کی بنیاد کا مضبوط ہونا، لتھڑنا۔ — الحبَّ ونحوَہٗ: دانہ وغیرہ جمع کرنا۔ الکِرْسُ ج اَکْرَاس'' جج اَکَارِسُ و اَکَارِیْسُ: اصل، بول و براز سے لتھڑا ہوا، ہر چیز کا ڈھیر، بکریوں کے بچوں کا باڑہ۔ کِرْسُ الحوض: حوض کے اردگرد بول و براز سے لتھڑی ہوئی زمین۔ الکُرَّاسُ و الکُرَّاسَۃُ ج کَرَارِیْسُ: کتاب کا جزء، پمفلٹ الکُرْسِیُّ ج کَرَاسِیُّ و کَرَاسٍ: تخت، کرسی، جس پر بیٹھا جائے، (کہا جاتا ہے۔ اجعل لهذا الحائط کرسیا: اس دیوار کے لئے پشتہ بنادو) علم کہا جاتا ہے۔ ھو من اھل الکرسی: یعنی وہ اہل علم میں سے ہے۔ — الرسولیُّ: پادری کا مرکز اعمال۔ کُرْسِیُّ المَلِكِ: تخت شاہی۔ کُرْسِیُّ الاسقفِ: پادری کی اقامت گاہ۔ کُرْسِیُّ الجوزاء (فلک): مجمع النجوم کا ایک ستارہ۔ الکَرَاسِیُّ: علماء۔ الکِرْیَاسُ ج کَرَایِیْسُ: چھت کے اوپر پاخانہ المُکْرَسُ (مفع) من القلائد: دو دو دھاگوں میں علیحدہ علیحدہ موتی اور مہرے کو گوندھ کر بڑے مہروں سے جوڑا ہوا ہار۔ المُکَرَّسُ (مفع): جوان پستہ قد پر گوشت۔ — من القلائد: بمعنی المُکْرَسُ

۲۔ کَرَّسَ الشیئَ لَہٗ: کو کیلئے وقف کرنا، خاص کرنا۔ — نفسَہٗ علی الشیئِ: کیلئے وقف ہونا۔ الاسقفُ البیعۃَ او الاوانی الکنسیۃَ و غیرَھا: پادری کا گرجے اور گرجے کے برتنوں وغیرہ کو وقف کرنا، (خدمت الٰہی کے لئے مخصوص کرنا)۔ تَکَرَّسَ: وقف ہونا، خدمت اللہ کے لئے مخصوص ہونا۔ اِنْکَرَسَ علیہ: پر اوندھا ہونا۔ — فی الشیئِ: میں اوندھا ہو کر داخل ہونا۔

۳۔ الکَرَوَّسُ: بڑے سر والا۔ ہر ضخیم چیز، سیاہ۔

۴۔ الکَرَسْتہ ء فی اصطلاح السکافین: جوتی بنانے والا چمڑہ۔ تاجر الکرستہ: چمڑے کا تاجر (ترکیہ)

۵۔ کَرْسَعَ کَرْسَعَۃً الرجلُ: دوڑنا۔

۶۔ کَرْسَعَ کَرْسَعَۃً فلانًا: کے گٹے کے چھنگلیا والے حصے پر مارنا۔ الکُرْسُوْعُ ج کَرَاسِیْعُ: گٹے کا چھنگلیا کی طرف کا حصہ۔ کُرْسُوعُ القدم: ٹخنے کا جوڑ۔ المُکَرْسَعُ مونث مُکَرْسَعَۃٌ: گٹے کے چھنگلیاں کی طرف ابھرا ہوا حصہ والا

۷۔ الکُرْسَعَۃُ و الکُرْسُوْعَۃُ: لوگوں کی جماعت۔

۸۔ کَرْسَفَ الدابَّۃَ: چوپایہ کی کونچ کاٹنا۔ — البعیرَ: اونٹ کے پاؤں کس کر باندھنا۔ — اللواۃَ: دوات میں صوف ڈالنا۔ تکَرْسَفَ: کونچ کٹنا، پاؤں بندھنا، دوات میں صوف پڑنا۔ — الشیئُ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ الکِرْسَافَۃُ: آنکھ کی کدورت اور سیاہی۔ الکُرْسُفُ و الکُرْسُوْفُ: روئی۔ الکُرْسُفَۃُ و الکُرْسُوْفَۃُ: روئی کا ٹکڑا، دوات کا صوف۔

۹۔ الکِرْسِنَّۃُ و الکِرْسَنَّۃُ (ن): ایک پھلی دار پودا جو چارہ کے کام آتا ہے۔

○ کَرَّسَ ہ: (عمارت) کی بنیاد رکھنا۔ تَکَرَّسَ: متحد رہنا، مربوط رہنا، کُرْسِی جمع کَرَاسِی و کَرَاسٍ: کرسی، تخت۔ اسقف کا علاقہ، نشست، پروفیسر کا عہدہ، یونیورسٹی کی پروفیسری، بنیاد، پایا، نیو، گولی (مشین کا پرزہ) کرسی بِیل یا کرسی بِلْی: بال، بیرنگ، کرسی دائر: چول اور چھلے والا اسٹول، گھومنے والا اسٹول، گھومنے والی کرسی۔ الکرسی الرَّسُولی: وائی کا علاقہ۔ کرسی طویل: آرام کرسی یا صوفہ، کرسی المَلِك: تخت شاہی کرسی المَمْلَکَۃ: راجدھانی، دارالسلطنت، دارالحکومت۔ کرسی ھزّاز: جھولنے والی کرسی، جھولا کرسی۔ اُستاذ کرسی: مکمل پروفیسر۔ کُرَّاسۃ جمع کراسات و کراریس: چوبیس تختے کاغذ، کتابچہ، نوٹ بک، کاپی بک، نقشوں کی کتاب، خاکوں کی کتاب، رسالہ، پمفلٹ، گلدستہ (کتاب کا) کَرَّسَ ہ: (عیسائیت میں) کسی چیز کو دینی کام کے لئے وقف کرنا۔ — ہ: اصولوں کو (مثلاً) مقدس قرار دینا۔ — ہ ل: کو سے منسوب کرنا، کوئی نذر کرنا۔ تکریس: نذر نیاز، وقف، انتساب، رسومات کے ساتھ آغاز، افتتاح (مسیحیت میں) نذر، وقف، تہدیہ، کتاب معنون کرنے کا مقدمہ، نذر کرنا، وقف کرنا، مُکَرَّس: نذر کیا ہوا، وقف کیا ہوا، دینی کام کے لئے وقف شدہ۔ ماءٌ مُکَرَّس: متبرک پانی۔

○ کُرْسُوع جمع کَرَاسِیع: کلائی کی ہڈی

○ کَرْسَفَ ہ: کسی جانور کی کونچیں کاٹنا۔ کِرْسِنَّۃ و کِرْسَنَّۃ: پھلی دار پودے جو چارے کے کام آتے ہیں۔

کرش: ۱۔ کَرِشَ ـَ کَرَشًا الجلدُ: آگ سے کھال سکڑنا۔ — الرجلُ: تنہائی کے بعد جماعت والا ہونا۔ کَرَّشَ: ترش روئی کرنا۔ مُکَرَّشَۃ: (ایک قسم کا کھانا) بنانا۔ تکَرَّشَ القومُ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ —

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وجهُهٗ: ترش رو ہونا۔ اِستَکرَشَ الرجُلُ: تیوری چڑھانا اور ترش روئی کرنا۔ ـــ الجدیُ: بکری کے بچے کا بڑے پیٹ والا ہونا اور وہ کھانا شروع کردے۔ ـــ ت اِنْفَحَۃُ الجدیِ: بکری کے بچے کے انفحہ کا کرش ہونا۔ (بکری کا بچہ جب تک کچھ نہ کھائے اور صرف دودھ پیتا رہے تو اس کی آنت کو انفحہ کہتے ہیں اور جب وہ کچھ کھانے لگے تو پھر کرش کہتے ہیں۔ الکِرْش و الکَرِش ج کُرُوش: کھروں والے اور جگالی کرنے والے جانور کی اوجھ (مونث) ـــ ج اَکْرَاش و کُرُوش: خوشبو کا ڈبہ، کپڑے کی گٹھڑی، لوگوں کی جماعت، مرد کے اہل وعیال، چھوٹی اولاد۔ (ن) ایک بہترین قسم کی گھاس جسے کھا کر اونٹ اور گھوڑے موٹے ہوجاتے ہیں۔ کَرِشُ القوم: قوم کا بڑا حصہ۔ کَرِشُ کُلِّ شیئٍ: ہر ایک چیز کا اجتماع۔ الاَکْرَشُ من الرجال مونث کَرْشَاءُ ج کُرْش: بڑے پیٹ والا۔ اور بقول بعض زیادہ مال والا۔ قَدَم کَرْشَاءُ: پرگوشت بھرے ہوئے تلوے اور چھوٹی انگلیوں والا قدم۔ اَتَانٌ کَرْشَاءُ: بھرے ہوئے کوکھ والی گدھی۔ دَلْوٌ کَرْشَاءُ: بڑا ڈول۔ التَکْرِیْشَۃُ (ط): اوجھ میں پکا ہوا کھانا۔ المُکَرَّشَۃُ (ط): گوشت وغیرہ پر مشتمل کھانا جو اوجھ کے ٹکڑے میں پکایا جاتا ہے۔

۲۔ الکَرْشَنَۃُ: عربی حروف کو اجنبی حرفوں کے انداز میں لکھنا یا اس کے برعکس کرنا۔ الکَرْشُونیُ: عربی الفاظ جو سریانی حروف میں لکھے جائیں (سریانیہ)۔

○ کَرِشَ ـــ کَرَشًا: جھریاں پڑنا، شکن پڑنا، مرجھانا، سوکھ کر جھری دار ہونا، پرشکن ہونا، بل ڈلنا، اینٹھنا، چیں بہ جبیں ہونا، کَرَّشَ: اپنے چہرے پر جھریاں ڈالنا، شکن ڈالنا، بھنویں سکوڑنا، تیوری چڑھانا، چیں بہ جبیں ہونا، خفگی کی نگاہ سے دیکھا، گھورنا، آنکھیں نیلی پیلی کرنا، گھرکنا، چشم نمائی کرنا۔ تَکَرَّشَ بمعنی کَرِشَ کِرْش و کَرِش (مونث) جمع اَکْرَاش و کُرُوش: پیٹ، شکم، توند، کِرْشَۃ: آنت، انتڑی، اوجھڑی، آنتیں، انتڑیاں کَرِیشۃ: کریب (کپڑے کی ایک قسم) اَکْرَش اور مُکَرَّش: توندوالا، توندل، بڑے پیٹ والا۔

کرص: کَرَصَ ـِ کَرْصًا الشیئَ: کوکوٹنا، ہاتھ سے نچوڑنا۔ کَرَّصَ: پنیر کھانا۔ الکَرِیْصُ: پنیر، پنیر بنانے کی جگہ۔ اِکْتَرَصَ الشیئَ: کو جمع کرنا۔ المِکْرَصُ: دودھ دوہنے کا برتن۔

کرض: کَرَضَ ـُ کَرْضًا الشیئَ: کو تہہ بتہہ رکھنا۔

کرظ: کَرَظَ ـ کَرْظًا فی عرض فلان: کو طعنہ دینا، کی عزت میں عیب لگانا کہا جاتا ہے۔ ھُوَ مَکْرُوْظُ الْحَسَب: اس کا حسب معیوب ہے۔

کرع: کَرِعَ ـَ کَرَعًا: کی پنڈلی پر تیر مارنا۔ کَرِعَ ـَ کَرَعًا: پنڈلی کی تکلیف کی شکایت کرنا، پایہ کھانے کا شوقین ہونا، باریک پنڈلی والا ہونا۔ ـــ ت الساقُ: پنڈلی کے اگلے حصہ کا باریک ہونا۔ تکَرَّعَ الرجُلُ: وضو کرنا، اطراف اعضاء پر پانی بہانا۔ الکَرَعُ: جانور کی ٹانگیں، کمینے فرومایہ لوگ، جنہیں جانور کی ٹانگوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کمینی طبیعت کا/ کے مالک، واحد اور جمع دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَرَعٌ ورِجَالٌ کَرَعٌ۔ الکُرَاع ج اَکْرُعٌ و اَکَارِع: گائے اور بکری کے پائے (مذکر و مونث) بعض کے بقول کُرَاع ٹخنوں کے نیچے کے حصہ کو کہتے ہیں۔ والکُرَاعُ مِنَ الانسان: گھٹنے سے نیچے کی پنڈلی، گھوڑے، گدھے، خچر، ہر شئے کا کنارہ۔ کُرَاعُ الارْضِ: زمین کا گوشہ کہا جاتا ہے۔ اِمْشِ فِیْ کُرَاعِ الطَّرِیْقِ: یعنی راستے کے کنارے پر چلو۔ اَکَارِعُ الاَرْضِ: زمین کی آخری حدیں الکُرَاعِیُّ: پائے بیچنے والا۔ الکَرَّاعُ: کم تر لوگوں کا ہم نشیں۔ الاَکْرَعُ: پتلی پنڈلیوں والا۔ فَرَسٌ مُکْرَعُ القَوَائِمِ: مضبوط ٹانگوں والا گھوڑا۔

۲۔ کَرَعَ ـَ کَرْعًا و کُرُوْعًا فی الماء او الاناء: پانی یا برتن میں منہ لگا کر پانی پینا۔ کَرِعَ ـَ کَرَعًا و کُرُوْعًا فی الماء او لاناء: منہ لگا کر پانی پینا۔ کَرَعَاتِ السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ اَکْرَعَ القومُ: کو منہ سے پانی پینے کے قابل پانا۔ ـــ ہٗ الصیدُ: سے شکار کا قریب ہونا۔ الکَارِعُ (فا): پانی میں غوطہ لگانے والا پیے یا نہ پیے۔ الکَارِعَۃُ ج کَارِعَاتٌ، الکَارِعُ کی مونث۔ الکَارِعَاتُ: پانی کے اوپر کھجور کے درخت۔ الکَرَعُ (مص): منہ لگا کر پینے کے قابل پانی۔ الکَرَّاعُ: (اسم مبالغہ فعّال کے وزن پر) بارش کے پانی سے اپنے جانوروں کو سیراب کرنے والا۔ الکَرِیْعُ: برتن نہ ہونے کی وجہ سے چلو بھر کر دریا سے پانی پینے والا۔ المَکْرَعُ ج مَکَارِعُ: جانوروں کے پانی پینے کی جگہ۔ المُکْرَعَۃُ من النخیل وغیرہ: پانی میں لگائے ہوئے کھجور وغیرہ کے درخت۔

○ کَرَعَ و کَرِعَ ـــ کَرْعًا و کُرُوعا: چسکی لینا، ہونٹوں سے تھوڑا تھوڑا پینا۔ تَکَرَّعَ: پاؤں دھونا، ٹانگیں دھونا (نماز کی تیاری کرتے ہوئے) وضو کرنا، ڈکار لینا۔ کَرْعَۃ: چسکی، چسکی لینا، وہ مقدار جو ایک دفعہ نگلی جاسکے۔ کُرَاع (مذکر و مونث) جمع اَکْرُع و اَکَارِع: پاؤں، خصوصاً بھیڑ یا بیل کے پائے، ٹانگ، حد، انتہا، اکارِعُ الأرض: زمین کے دور ترین علاقے۔ تَکْرِیْعَۃ: ڈکار لینا، ڈکار، کَارِع جمع کَوَارِع: پاؤں، جانوروں کے پائے، ٹخنہ، ٹخنہ کی ہڈی، جمع بھیڑ کے پایوں سے تیار کیا ہوا کھانا۔ کَرَفْس: اجوائن خراسانی۔

کرف: کَرَفَ ـِ کَرْفًا و کِرَافًا و اَکْرَفَ الحمارُ وغیرُہٗ: گدھے وغیرہ کا پیشاب کو سونگھ کر سر اٹھانا اور ہونٹوں کو پلٹنا۔ ـــ الشیئَ: کو سونگھنا۔ الکِرْفُ: ایک ہی چمڑے کا ڈول۔

۲۔ الکَرَّافِیَّۃُ (عند العامۃ): چھوٹی گردن اور کھلے جسم والی صراحی (اطالوی زبان)۔

۳۔ کَرْفَأَ تِ القِدْرُ: ہانڈی کا جھاگ دینا۔ ـــ القومُ: خلط ملط ہونا۔ تَکَرْفَأَ السحابُ: بادل کا تہہ بتہہ ہونا۔ الکِرْفِئُ: بلند بادل اور اس کے ایک حصہ کو کِرْفِئَۃ کہتے ہیں، انڈے کے اوپر کا چھلکا۔

۴۔ اَلْمُکَرْفَحُ: بدصورت چہرہ والا۔

۵۔ کَرْفَسَ کَرْفَسَۃً: بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔ ـ البعیرَ: کونگ باندھنا۔ تکَرْفَسَ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ الکُرْفُسُ (ن): روئی۔ الکَرَفْسُ (ن): جوائن کی نسل کی ایک سبزی ہے جو بحر متوسط کے ساحلوں اور دیگر کئی علاقوں میں بھی کاشت کی جاتی ہے ابتدائی طور پر اس کو طبی پودے کے طور پر اگایا گیا تھا بعد میں یہ غذائی اجناس میں شامل ہوگئی اور اس کی مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک کَرَفْسٌ کَرَنْبِیٌّ ہے جس کی جڑیں کھائی جاتی ہیں۔ (سریانیہ)۔

کرک: الکُرْکِیُّ: ج کَرَاکِیُّ (ح): سارس نام کا ایک پرندہ مٹیالہ رنگ، گردن اور ٹانگیں لمبی، دم بالکل چھوٹی، تھوڑے گوشت والا، کبھی کبھی پانی میں رہتا ہے۔ الکَرْکِیُّ: منکا تقطیر کے لئے مستعمل ہے (عامی زبان میں)

۲۔ الکَرْکَدَنُّ (ح): گینڈا، بہت بڑے کھر دار جسم اور بالوں سے عاری چھوٹی ٹانگوں اور مضبوط جسم والا جانور، ٹانگیں چھوٹی جبکہ جسم مضبوط، سر پہ ایک سینگ ہوتا ہے، بعض قسموں میں ایک سینگ کے اوپر ہی ایک اور سینگ ہوتا ہے اس کو ھِرْمِیس اور وَحِیْدُ القرن بھی کہتے ہیں (فارسیہ)

۳۔ کَرْکَسَ الشیئَ: کو رد کرنا، ہٹانا۔ ـــ الدابّۃَ: چوپائے کو باندھنا ـــ و تَکَرْکَسَ الانسانُ: اوپر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سے نیچے لڑھکنا۔
۴۔الکُرکُمُ: مصطگی (ن) زعفران (ن): مصطگی ایک نباتات کی جڑ جو ورس یا اس کے مشابہ ہے۔(دیکھوالورس)
۵۔الکُرکُندُ: سرخ رنگ کا گوند، گینڈا۔
○ کُرُك: پوستین، سمور، جانور کی ملائم کھال۔ کَرَکَۃ: عرق نکالنے، مقطر کرنے یا جوہر کشید کرنے کا آلہ یا بوتل۔ بھبکا۔قرنبیق۔ کُرکِی جمع کَرَاکِی: کلنگ، کرکول، سارس۔لق لق۔ کَرّاکَۃ جمع کَرّاکات: دریاؤں وغیرہ کی تہہ سے کیچڑ نکالنے کی مشین (ڈریج) اصلاحی قید خانہ۔
○ کَرکَبَ ہ: کو بے ترتیب کرنا، تلے اوپر کر دینا، درہم برہم کر دینا، گڈمڈ کر دینا۔ — : شور برپا کرنا۔ کَرکَبَۃ: بے ترتیبی، افراتفری، پراگندگی۔ ابتری۔ خلط ملط، بدنظمی۔گڑبڑ۔
○ کَرکَدَّن و کَرکَدَن: گینڈا، کرکدن، کرکدن بحری: ایک سینگ والی وہیل مچھلی جو بحر شمال میں ہوتی ہے۔ کَرکَرَ ہ: کو دہرانا، مکرر کرنا، بار بار کہنا یا کرنا — : پیٹ کا گڑگڑانا، گدگدی ہونا۔لطف آنا۔ کَرکَرَ فی الضحك: کھلکھلا کر ہنسنا، زور سے ہنسنا، کَرکَرَۃ: اونچی آواز میں ہنسی، پیٹ کی گڑگڑاہٹ
○ کُرکُم: پسی ہوئی (ہلدی)، زرد چوب، ہلدی پطرس۔
○ کَرکَند: مختلف رنگوں کا لعل، یاقوت۔جھینگا مچھلی۔
○ کَرکوز: نقلی کھیل۔
○ کَرکون: تھانہ، پولیس چوکی۔
کَرَمَ ـُ کَرمًا ہُ: پر کرم میں غالب ہونا، کہا جاتا ہے کَارَمَہٗ فَکَرَمَہٗ: اس نے اس سے کرم میں مفاخرت کی اور غالب ہوگیا۔ کَرُمَ ـُ کَرَمًا و کَرَمَۃً و کَرَامَۃً: سخی اور فیاض ہونا، عزیز و نفیس ہونا۔ — السحابُ: بادل کا بارش لانا۔ کَرَّمَ تکرِیمًا و تکرِمَۃً ہُ: کی تعظیم کرنا۔ تنزیہ کرنا۔ کَرَّمَ اللّٰہُ وَجھَہٗ: اللہ تعالیٰ انہیں باعزت کرے۔ — و کَرِمَ السَّحَابُ: بادل کا بہت پانی والا ہونا۔ کَارَمَ ہُ: پر کرم میں مفاخرت کرنا — کَارَمتُ فُلَانًا: میں نے اس کے پاس ہدیہ بھیجا تا کہ وہ بدلہ دے۔ اَکرَمَ: کریم اولاد والا ہونا — فلانًا: کی تعظیم کرنا — نفسَہٗ عن المعاصی: خود کو گناہوں سے بچانا، محفوظ رکھنا، تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ مَا اَکرَمَہٗ لی: یعنی وہ میری کس قدر تعظیم کرتا ہے اور فعل رباعی سے ہونے کی وجہ سے یہ شاذ ہے۔ تَکَرَّمَ: بتکلف کرم کرنا — و تَکَارَمَ عن کذا: سے بچنا، دور رہنا۔ اِستَکرَمَ: عمدہ عمدہ چھانٹ لینا — الشیئ: اچھی چیز طلب کرنا، اچھی چیز پانا۔
الکَرمُ ج کُرُوم واحد کَرمَۃ: (ن) انگور کی بیل، اس کا اصلی گہوارہ ایشیا کوچک ہے قدیم زمانے سے بحر متوسط کے کناروں پر اگائی جا رہی ہے وہیں سے پوری دنیا میں پھیلی۔ تازہ اور خشک دونوں قسم کا انگور کھایا جاتا ہے انگور سے نبیذ، عرق اور شیرہ بنایا جاتا ہے۔ فصیل والا گنجان باغ انگور، بعض کے نزدیک اسے کرم اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے بنائی جانے والی شراب سخاوت اور کرم پر ترغیب دیتی ہے۔ ہار۔ بِنتُ الکَرمِ اَوِ الکَرمَۃِ اَوِ الکُرُومِ: شراب کہا جاتا ہے۔ اَفعَلُ ذَالِكَ وَکُرمًا و کُرمَۃَ و کُرمَۃَ عَینٍ لَكَ: یعنی تمہاری تعظیم کے لئے کرتا ہوں۔ الکَرَمُ (مص): درگزر، بخشش، فیاضی ہار میں ایک قسم کی کاریگری، صفت بمعنی کریم وطیّب اور یہی لفظ واحد، جمع، مذکر اور مونث سب کے لئے مستعمل ہے۔ رَجُلٌ کَرَمٌ وَنِسَاءٌ کَرَمٌ وَاَرضٌ کَرَمٌ۔ الکَرمَۃُ: انگور کی بیل، یہ کرم سے خاص ہے، کہا جاتا ہے۔ اَفعَلُ ذَالِكَ وَکَرمَۃً لَكَ یعنی کَرَامَۃً اور کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَرمَۃٌ یعنی کَرِیمٌ اور کہا جاتا ہے۔ افعل ذالك وکَرمَی وکُرمَانًا لك یعنی وکَرَامَۃً لَكَ ۔ الکُرَامُ ج کُرَامُونَ: کریم۔ الکَرَامَۃُ (مص) خارق عادت امر جو اولیاء اللہ سے ظاہر ہو کہا جاتا ہے۔ اَفعَلُ ذَالِكَ وکَرَامَۃً لَكَ اور لَہٗ عَلَیَّ کَرَامَۃٌ فلاں کے لئے میرے ہاں بزرگی ہے۔ الکَرَّامُ انگور کی بیل والا اور اس کی نگہبانی والا۔ الکُرَّامُ والکُرَّامَۃُ ج کُرَّامُونَ: بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ الکَرِیمُ ج کِرَامٌ وکُرَمَاءُ: درگزر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنٰی میں سے ہے، صاحب کرم، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَرِیمٌ سخی انسان اور لفظ کَرِیمٌ کا اطلاق ہر اچھی، پسندیدہ اور قابل تعریف چیز پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ رِزقٌ کَرِیمٌ: بہت روزی۔ قَولٌ کَرِیمٌ: معانی کے لحاظ سے پسندیدہ اور الفاظ اور فوائد کے اعتبار سے بہت اچھا۔ وَجہٌ کَرِیمٌ جمال ومحاسن کے اعتبار سے پسندیدہ چہرہ۔ الکَرِیمَانُ: حج اور جہاد۔ الکَرِیمَۃُ ج کَرِیمَاتٌ و کَرَائِمُ و کِرَامٌ، الکَرِیمُ کا مونث: صاحب کرم وحسب، کہا جاتا ہے، فُلَانٌ کَرِیمَۃُ قَومِہٖ: فلاں اپنی قوم میں شریف ہے۔ کَرِیمَۃ میں تاء مبالغہ کے لئے ہے، ہر عضو شریف جیسے ہاتھ کان۔ کَرِیمَۃُ الرَّجُلِ: بیٹی۔ کَرَائِمُ الـمَالِ: عمدہ اور بہترین مال۔ الکَرِیمَتَانِ: دونوں آنکھیں [illegible]
(مص): تکیہ، تکیہ جس پر انسان کو عزت و تعظیم کے خیال سے بٹھایا جائے۔ المِکرَامُ: لوگوں کا اکرام کرنیوالا، فیاض۔ المَکرُمُ والمَکرُمَۃُ ج مَکَارِمُ: شریف، فیاض، اَرضٌ مَکرُمَۃٌ لِلنَّبَاتِ: عمدہ زرخیز زمین۔ المَکرُمُ والمَکرُمَۃُ: کریم، کرم کا فعل، کہا جاتا ہے۔ فِعلُ الخَیرِ مَکرُمَۃٌ یعنی فعل خیر کرم یا تعظیم کا سبب ہے۔ المَکرُمَانُ: کریم، بہت وسیع اخلاق والا اور یہ ندا ہی کے لئے مخصوص ہے کہا جاتا ہے۔ یَامَکرُمَانُ، المُکَرَّمُ (مفع): ہر ایک کے نزدیک باعزت شخص۔
۲۔الکَرمَۃُ (ع ا): ران کی گول ہڈی کا سرا۔ الکَرُومُ (ك): کروم (Chrome) ایک دھاتی عنصر (Chromium)۔
کرن: الکُرُنبُ والکَرَنبُ: اسے ''ملفوف'' بھی کہا جاتا ہے (ن) کرم کلا، بند گوبھی (Cabbage) (یونانیہ)۔ الکُرُنبُ والکَرَنبُ اللِّفتِیُّ: کرم کلا کی ایک قسم ہے جس کے بیج اور تنا سخت ہوتے ہیں اسے شلغم کی طرح کھایا جاتا ہے اور چارہ کے طور پر جانوروں کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ فَرَاشَۃُ الکَرَنبِ: پروں والا نقصان دہ کیڑا ہے۔ اس کا رنگ اکثر سفید ہوتا ہے اس کی بعض اقسام بند سبزیوں کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے اسے دودۃ الکرنب یا دودۃ الملفوف: بھی کہا جاتا ہے الکُرُنبِیَّۃُ (ط): ایک قسم کا کھانا جو کرم کلا سے بنایا جاتا ہے۔ الکَرَنبِیَّاتُ: (ح) فراشۃ الکرنب کی طرح کا ایک پردار کیڑا۔
۲۔کَرنَفَ الکَرَانِیفَ: کھجور کی ٹہنی کو کاٹ لینے کے بعد تنا میں جو حصہ باقی رہ جائے اس کو کاٹنا۔ ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ الشیئَ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا — النخلۃَ: تنا کو کھجور کے باقی ماندہ حصہ سے صاف کرنا۔ الکِرنَافُ والکُرنَافُ واحد کِرنَافَۃٌ ج کَرَانِیفُ: کھجور کی ٹہنی کو کاٹ لینے کے بعد تنا میں باقی ماندہ حصہ۔ اَنفٌ مُکَرنِفٌ: موٹی ناک۔
○ کَرُمَ ـُ کَرَمًا و کَرَمَۃً و کَرَامَۃً: شریف ونجیب ہونا، عالی منش و عالی ظرف ہونا۔ شریف النفس ہونا، سخی و فیاض ہونا، فراخدل ہونا، آزاد خیال ہونا، قیمتی ہونا، گراں بہا ہونا، کَرَّمَ ہ: کو شریف اور عالی منش کہنا، کا احترام کرنا، کا عقیدت مند ہونا، کی توقیر کرنا، کا بڑا احترام کرنا، کے ساتھ ادب و تعظیم سے پیش آنا — ہ علی: کو پر سرفراز کرنا۔ دوسروں کے سامنے کسی کو اعزاز بخشنا عطا کرنا، کَرَّمَ اللّٰہُ وجھَہٗ: اللہ تعالیٰ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اسے اعزاز عطا فرمائے۔ كَارَمَ ہ: سے سخاوت میں مقابلہ کرنا، سے تہذیب، ادب اور احترام کے ساتھ ملنا اَكْرَمَ ہ: کو شریف، نجیب، عالی نفس یا عالی ظرف کہنا، کی عزت کرنا، احترام کرنا، سے ادب، احترام اور مہمان نوازی کے ساتھ پیش آنا، کو اعزاز عطا کرنا۔ -: خود کو عالی منش اور فیاض ثابت کرنا۔ ــ ہ ب: کو اعزاز عطا کرنا، کو کچھ پیش کرنا۔ کا تحفہ دینا یا کا ہدیہ پیش کرنا، کو کچھ عطا کرنا، عنایت کرنا، مرحمت کرنا۔ تَكَرَّمَ: فیاض بننا، فیاضی کا تصنع کرنا۔ اپنی سخاوت کا رخ دکھانا۔ شریف ہونا، نجیب ہونا، دوستانہ، مہربان و رحم دل ہونا۔ ـ ب علی: کسی کے متعلق یا کی طرف سے کچھ (ب) کرنے کی مہربانی کرنا۔ علی ب: کو کچھ پیش کرنا، کو ازراہ نوازش کچھ عطا کرنا۔ كَرْم: اسم جمع جمع كُرُوم: انگوری بیل، انگور، انگوری بیلیں، باغ بوستان (پھلدار درختوں کا) بِنْتُ الكَرْم: شراب۔ كَرْمَة: انگوری بیل۔ كَرَم: شریف طبیعت، خو، افتاد طبع۔ اعلیٰ منشی، اعلیٰ ظرفی، شریف النفسی، سخاوت، فیاضی، مہربانی، دوستانہ سلوک، دوستی، رواداری، بے تعصبی، بڑی فیاضی كَرَمًا: بڑی مہربانی سے، بڑی مروت سے، بڑی نوازش سے، كرم الاخلاق: شریف النفسی، شریف کردار كَرَمُ المَحْتِد: اعلیٰ خاندان۔ كُرْمَةً لَكَ و كُرْمَانًا لَكَ: تمہاری خاطر، تمہارے اعزاز میں، آپ پر کرم فرمائی کے طور پر۔ كَرَامَة: شرافت، نجابت، عالی منشی، عالی ظرفی، شریف دلی، فیاضی، فراخدلی، عظمت، قدر و منزلت، عزت، احترام، مسلمہ حیثیت، وقار، عزت کی علامت، احترام کا نشان، کرم فرمائی جمع كَرَامات (کسی ولی وغیرہ کا) معجزہ حُبًّا و كَرَامَةً لَكَ: تمہاری خاطر، تمہارے اعزاز میں، بڑی خوشی سے، بڑی سے بڑی مسرت سے صَاحِبُ کرامات: معجزہ کرنے والا۔ كَرِيم جمع كُرَمَاء و كِرام: شریف، نجیب، ممتاز، بلند مرتبہ کا، نمایاں، غیر معمولی، عالی منش، عالی ظرف، شریف دل، سخی، فیاض، مہمان نواز، نیک اور رحم دل محسن، محسن، مہربان شفیق، دوست، بامروت، بامروت مدد کرنے والا۔ قابل عزت، قابل احترام، مہذب، شائستہ، قیمتی، بیش بہا، بیش قیمت، نسلی، نسل دار، الكريمان: جہاد اور مکہ معظمہ کا حج كريمُ الاخلاق: عالی منش، عالی ظرف، شریف النفس، شریف دل، شریف، نجیب، كَرِيمُ الاصل: اعلیٰ خاندان کا، خاندانی، حجر كريم: قیمتی پتھر، گوہر، حصان كريم: نسلی گھوڑا دخل كريم: معقول یا آبرومندانہ آمدنی۔ المَعَادِنُ الكريمة: قیمتی دھاتیں، كَرِيْمَة جمع كَرَائم: قیمتی چیز، جسم کے اعضا رئیسہ میں سے ایک عضو جیسے آنکھ، دختر، بیٹی الكريمتان: دو آنکھیں كَرَائمُ المال (الاموال): نہایت قیمتی اشیاء (کسی کی ملکیتی) كَرَّام جمع كَرَّامون: انگور کی بیلیں اگانے والا۔

○ اَكْرَم جمع اَكَارِم: شریف تر، نجیب تر، زیادہ ممتاز، زیادہ قیمتی، نہایت قابل احترام، بڑا عالی منش، بہت شریف دل، نہایت سخی، مَكْرَم و مَكْرَمَة جمع مَكَارِم: شریف وصف، اعلیٰ خوبی۔ مكارِم الاخلاق: شریف خصوصیات یا اوصاف، اوصاف حمیدہ، کردار کی خوبیاں مَكْرُمَة جمع مَكَارِم: شریف کام تكريمًا لَكَ: تمہارے اعزاز میں۔ اِكرامًا لَهُ: اس کے اعزاز میں۔ اِكرامِيَة جمع اكراميات: اعزازیہ، اعزازی تنخواہ، سالانہ انعام مُكَرَّم: معزز، محترم، مقدس، بے حد محترم۔ المُكَرَّمَة: مکہ کا لقب (چنانچہ کہا جاتا ہے مكة المُكَرَّمَة)

○ كَرْمَشَ و تَكَرْمَشَ: سکڑنا، تہوں میں آجانا، شکن پڑنا، چرمر ہو جانا، شکن زدہ ہو جانا، كَرْمَشَة: تہہ، سلوٹ، شکن، چنٹ بنی جانے والی چیز۔

○ الكَرْمَل: کارمل پہاڑ (شمالی فلسطین میں بلند قطعہ زمین جو سمندر میں چلا گیا ہے)۔

○ كَرَمِلا: سوختہ شکر کی مٹھائی۔

○ الكَرِمْلِين: روسی قلعہ Kremlin، روسی سویت حکومت کا صدر مقام۔

○ كُرَنْتِينة جمع كرنتينات: قرنطینہ۔

○ كُرْناف جمع كَرَانيف: کھجور کے درخت کا ٹھنٹھ یا بچا ہوا ٹکڑا۔ كُرنافة جمع كرنافات: بندوق کا کندا، رائفل کا کندا۔

○ كَرَنك جمع كَرَنْكات: دھری پھیر، چکر کہنی، گھمیا (Crank Shaft, Crank)

○ كرنيش و كورنيش جمع كَرَانِيش: گگر، کارنس، کارنس کا آرائشی حاشیہ، چھجا، ساحلی سڑک، جو سمندر کے کنارے کنارے چلتی ہو یا کنارے پر واقع ہو۔

كره: كَرِهَ ــ كَرْهًا و كُرْهًا و كَرَاهَةً و كَرَاهِيَةً و مَكْرَهَةَ و مَكْرُهَةً الشيئَ: کو ناپسند کرنا صفت فاعلی۔ كَارِهٌ صفت مفعولی مَكْرُوهٌ۔ كَرُهَ ــُ كَرَاهَةً و كَرَاهِيَةً الامرُ او المنظرُ: قبیح ہونا صفت: كَرِيْهٌ۔ كَرَّهَ الشيئَ فلانًا و كَرَّهَ الشيئَ الى فلان: چیز کسی کو ناپسند کرانا۔ اَكْرَهَ الرجُلَ: کو ناپسندیدہ امر پر اکسانا۔ ــ فلانا على الامر: کو پر مجبور کرنا۔ تَكَرَّهَ و تكارَهَ الشيئَ: کو ناپسند کرنا۔ ــ ہ: پر غضبناک ہونا۔ اسْتَكْرَهَ الشيئَ: کو قبیح پانا، قبیح سمجھنا۔ الكَرْهُ والكُرْهُ (مص): انکار اور مشقت، جس پر کسی کو مجبور کیا جائے اور بعض کے بقول كُرْهُ بالضم جس پر تم اپنے آپ کو مجبور کرو اور كَرْهُ بالفتح جس پر کوئی غیر تمہیں مجبور کرے اور کہا جاتا ہے۔ شيئٌ كَرْهٌ مکروہ چیز، رَجُلٌ كَرِهٌ: ناراض مرد۔ وَجْهٌ كَرِهٌ: قبیح چہرہ۔ فَعَلَهُ كَرْهًا: یعنی اس نے اس کو مجبوراً کیا۔ الكَرِهُ: قبیح۔ الكَرَاهَةُ (مص): سخت زمین۔ الكَرَاهِيَنُ: کراہت کہا جاتا ہے۔ اَتَيْتُكَ كَرَاهِيَنَ اَنْ تَغْضَبَ: تیرے غضبناک ہونے کی کراہت سے میں تیرے پاس آیا۔ الكَرِيْهَةُ ج كَرَائِهُ مونث الكَرِيْهُ کی: لڑائی کی شدت، مصیبت، کہا جاتا ہے۔ لَقِيْتُ دُوْنَهُ كَرَائِهَ وَمَكَارِهَ: اس کی وجہ سے میں مصیبتوں اور پریشانوں سے دوچار ہوا۔ ذو الكَرِيْهَةِ: شمشیر براں، قاطع تلوار۔ المَكْرَهُ ج مَكَارِه: مکروہ، ناپسندیدہ، المُكْرَهَةُ و المَكْرُهَةُ ج مَكَارِهُ: ناپسندیدہ۔ دشوار چیز۔ المَكْرُوْهُ (مفع): شر۔ المَكْرُوْهَةُ: سختی کہا جاتا ہے۔ هُوَذُو مُكْرُوْهَةٍ: وہ سختی میں ہے۔

○ كَرِهَ ہ: پر غصہ کرنا، طیش کھانا، سے متنفر ہونا، نفرت کرنا، کراہت کرنا، گھن کھانا، کو ناپسند کرنا۔ كَرُهَ ــُ كَرَاهَةً: ناپسند ہونا، قابل نفرت ہونا، نفرت انگیز ہونا۔ كَرَّهَ ہ/علی ہ: کو سے متنفر کرنا۔ ــ ہ/الی ہ: میں کسی چیز سے نفرت جگانا یا ابھارنا۔ اَكْرَهَ ہُ علی: کو پر مجبور کرنا۔ تَكَرَّهَ ہ: سے نفرت رکھنا، سے نفرت محسوس کرنا، نفرت کرنا۔ اِسْتَكْرَهَ ہ: سے نفرت رکھنا، سے نفرت محسوس کرنا، سے نفرت کرنا۔ - ہ علی: کو پر مجبور کرنا۔ كَرْہ و كُرْہ: نفرت، ناپسندیدگی، جبلی نفرت، کراہت، بیحد یا سخت نفرت، تنفر۔ كَرْهًا و كُرْهًا و علی كُرہ و علی كُرْهٍ منه: نارضامندی سے، بیدلی سے، ہچکچاہٹ سے، بادل نخواستہ، لاچاری سے، مجبوراً، جبراً، قہراً، ناجائز دباؤ میں آکر۔ كَرِہ: قابل نفرت، سخت ناپسندیدہ، ناگوار۔ كَرِيه: ناخوشگوار، ناپسند، ناگوار، کریہ، گھناؤنا، نفرت انگیز۔ كَرَاهَة: بمعنی كَرْہ و كُرْہ۔ كَرَاهِيَة: بمعنی کراهة نیز بمعنی: تضاد، ناموافقت (طلاق کی وجہ کے طور پر)، حرامی پن، پاجی پن، کمینہ پن، مکروہ پن، لائق ملامت ہونا۔ علی كَرَاهِيَة: نارضامندی سے، بادل نخواستہ، بے دلی سے، لاچاری سے۔ كَرِيْهَة جمع كَرَائِه: آفت، مصیبت، اِدبار، نحوست، بدقسمتی،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بدنصیبی، سیاہ بختی۔ مَکْرَہ: قابل نفرت چیز، ناخوش گوار صورت حال۔ مَکْرَهَة و مَکْرُهَة: نفرت، سخت نفرت۔ مَکَارِہ قابل نفرت چیزیں، مصائب، آفات، افتادیں۔ اِکْرَاہ: مجبوری، زبردستی، زور آوری، دباؤ، زور، قہر، بل، طاقت، قوت، شہ زوری، قوت کا استعمال۔ بالاکراہ: زبردستی، زبردستی سے۔ اِکْرَاهِی: لازمی، جبری، بالجبر، تشدد آمیز۔ تَکَرُّہ: نفرت، کراہت، ناپسندیدگی، بیر، بے زاری، ناخوشی، تنفر، گھن۔ کَارِہ: بے دل، نارضامند، ناخوشی، بے مرضی کا، بے دلی کا، متنفر، مخالف۔ مُکْرَہ: جبر کیا ہوا، مجبور کیا ہوا۔ مُتَکَرِّہ: نارضامند، ناخوش، غیر آمادہ۔

کرو ۱۔ کَرَا یَکْرُوْ کَرْوًا الارض: زمین کھودنا۔ ۔البئرَ کنویں کا من درختوں کے تنوں سے بنانا۔
۲۔ کَرَا یَکْرُوْ کَرْوًا الامرَ: کا بار بار اعادہ کرنا۔ بالکُرَۃِ: گیند سے کھیلنا۔ الکُرَۃُ ج کُرًی و کُرِیْنٌ و کِرِیْنٌ و کُرَاتٌ و اُکَرٌ: ہر وہ چیز جس کو تم گول بناؤ، ہر گول چیز اور اس کی طرف نسبت کے لئے۔ کُرَوِیٌّ و کُرِیٌّ اور اس سے ہے الکُرَاتُ: ورزشی کھیلوں میں مستعمل گیندیں جیسے باسکٹ بال، فٹ بال وغیرہ۔ الکُرَۃُ السَّمَاوِیَّۃُ (فلک): کرہ آسمانی ایک خیالی کرہ جس پر ستارے بھی فرض کر لئے گئے ہیں اس کا مرکز زمین کا ہی کوئی ایک حصہ ہے اس کا قطر لامتناہی طور پر بڑا ہے جہاں زمین اور ستاروں کے اندازے بیچ ہیں۔ الکُرَۃُ السماویة المحلیة الخاصة بمکان مامن الارض (فلک): آسمانی کرہ، جس پر اس جگہ کی مقداریں تحریر کی جاتی ہیں۔ جیسے افق، سمت الراس، نظیر السمت، خط الزوال اور جہات اربعہ۔ خط زوال اور جہات اربع۔ کُرَۃُ الثوابت (فلک): اپنی جگہ جمے ہوئے ستاروں کا کرۂ آسمانی۔
۳۔ کَرَا یَکْرُوْ کَرْوًا ت الدابَّۃُ: تیز دوڑنا۔
۴۔ کَرِیَ ۔ کَرًا ت المرأۃُ: عورت کا موٹے بازوؤں والی ہونا۔ ـــــ ت الساقُ: پنڈلی کا باریک ہونا۔ الکَرَا: بازوؤں کی موٹائی یا پنڈلیوں کی باریکی۔
۵۔ الکَرَا (ح) کَرَوَانٌ کا مذکر۔
الکَرَوَانُ مونث کَرَوَانَۃٌ ج کِرْوَانٌ و کَرَاوِیْنُ (ح): لمبی ٹانگوں، بھورے رنگ اور لمبی چونچ والا ایک پرندہ کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو سوتا نہیں جبکہ اس کا نام اس کے الٹ رکھا گیا ہے، کیونکہ کری کا معنی اونگھ ہے۔
۶۔ الکَرُّوْسَۃُ: چھکڑا، سواری (اطالوی)
۷۔ الکَرَوْیَا و الکَرَوْیَاءُ: زیرہ (یونانی)

کری: ۱۔ کَرٰی یَکْرِیْ کَرْیًا الرجلُ: تیز دوڑنا۔ ـــــ المُکَرِّیُّ من الابل: آہستہ و نرم رفتار اونٹ۔
۲۔ کَرٰی یَکْرِیْ کَرْیًا النهرَ: نہر میں نیا گڑھ کھودنا۔
۳۔ کَرٰی یَکْرِیْ کَرْیًا بالکرۃ: گیند سے کھیلنا۔
۴۔ کَرِیَ یَکْرٰی کَرًی الرجلُ: اونگھنا صفت کَرٍ و کَرِیٌّ و کَرْیَانٌ ۔ اَکْرٰی اَکْرَاءً فلانٌ: طاعت الٰہی میں شب بیداری کرنا۔ تَکَرّٰی تَکَرِّیًا: سونا۔ الکَرِیُّ ج اَکْرِیَاءُ: اونگھنے والا۔ الکَرْیَان: اونگھنے والا۔
۵۔ کَارٰی مُکَارَاۃً و کِرَاءً ہ الدابَّۃَ او الدارَ: کو چوپایہ یا مکان کرایہ پر دینا صفت مُکَارٍ۔ اَکْرٰی اِکْرَاءً فلانًا دابۃً او دارًا: کو چوپایہ یا مکان کرایہ پر دینا اور اسم الکَرْوُ و الکُرْوُ والکُرْوَۃُ۔ تَکَارٰی و اِسْتَکْرٰی الدارَ وغیرها: مکان وغیرہ کرایہ پر لینا۔ اِکْتَرٰی منہ الدارَ وغیرَها: سے مکان وغیرہ کرایہ پر لینا۔ الکِرَاءُ و الکِرْوَۃُ: کرایہ۔ الکَرِیُّ ج اَکْرِیَاءُ: کرایہ پر لینے والا، کرایہ پر دینے والا المُکَارِیُّ ج مُکَارُوْنَ: جانوروں کو کرایہ پر دینے والا اور اب اکثر گدھے اور خچر والوں پر بولا جاتا ہے۔
۶۔ اَکْرٰی اِکْرَاءً الشیءُ: زیادہ ہونا، کم ہونا (ضد) ـــــ الامرَ: کو مؤخر کرنا، پیچھے ڈالنا۔ ـــــ الحدیثَ: بات طویل کرنا۔ الکَرِیُّ: بہت چیز۔
۷۔ الکَرِیُّ واحد کَرِیَّۃٌ (ن) ایک درخت جو ریگستان میں اگتا ہے۔

○ کَرْو: کھودنا، کھدائی۔ کُرَۃ جمع کُرَات و کُرًی: گولا، گول چیز، گیند۔ کُرَۃُ الارض و کُرَۃٌ اَرْضِیَّۃ: کرۂ زمین، کُرَۃُ الثلج: برف کا گولا۔ کُرَۃُ السَّلَّۃ: باسکٹ بال۔ کُرَۃُ الطاوِلَة: ٹیبل ٹینس۔ کرۃ القدم: فٹ بال کُرَۃُ الکواکب: حرم سماوی۔ کرات لحم: کوفتے، قیمہ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں۔ کُرَۃ الید: ہاتھ کی گیند، نِصفُ الکُرَۃ: نصف کرہ۔ کُرَیَّۃ: قطرہ۔ الکریات الحمراء: (احمر)، خون کے سرخ جسیمات (سیلز)۔ کُرِی و کُرَوِی: کروی، قطراتی، گول، گیند کی شکل کا، گیند جیسا، کروی شکل کا، مُدَوَّر، خون کا قطروں پر مشتمل۔ کُرَوِیَۃ: گولائی، کرویت۔ مدوریت، کرویة الارض: زمین کی گولائی، کَرَوان و کِیروان: لمبی ٹانگوں کے پرندہ کی ایک قسم۔ کَرُوب و کَرُوبی جمع کروبیون و کَرُوبیم: فرشتہ اعظم۔ کَروسة جمع کروسات: بگھی۔ کَرَکی جمع کَرَاکِی [illegible]

خاکہ، مُسَوَّدَہ
کَرُوم: ایک دھاتی عنصر۔ کَرَوْیَا: زیرہ، زیرہ رومی۔
کَرِیَ ۔ کَرًی: سونا، سویا ہوا ہونا، محو خواب ہونا۔
○ کَرٰی ـِ کَرْیًا ہ کو کھودنا (جیسے نہر کھودنا) کاری و اَکْرٰی ہ ہ کو کچھ کرایہ پر دینا۔ تَکَرّٰی: سونا، سویا ہوا ہونا، محو خواب ہونا۔ اِکْتَرٰی و اِسْتَکْرٰی ہ کو کرائے پر لینا، پٹے پر لینا۔ ـــــ ہ: کو ملازم رکھنا، نوکر رکھنا، کی خدمات حاصل کرنا۔ کَرًی: نیند، خواب۔
کِرَاء: کرایہ، پٹہ، امکانی کرایہ، اجرت، کرایہ پر لینا، یا دینا، اجرت، تنخواہ۔ اِکْرَاء: کرایہ، کرایہ پر لینا، یا کرایہ پر دینا، پٹہ پر دینا، ٹھیکہ پر دینا۔ اِکْتِرَاء: کرایہ، کرایہ پر لینا یا دینا، پٹہ پر لینا، مُکَارٍ جمع مُکَارُون: بھاڑے پر لینے یا دینے والا (خصوصاً گھوڑوں، گدھوں اور خچروں کو)، گدھے ہانکنے والا، خچر والا، خچربان۔ مُکْرٍ: پٹہ دینے والا، اجارہ یا ٹھیکہ دینے والا، کرایہ پر لینے والا، مکان والا، زمیندار، مُکْرًی: کرایہ یا پٹہ لیا دیا ہوا۔ مُکْتَرٍ و مُسْتَکْرٍ: کرایہ پر لینے یا دینے والا، مزارع، لگان دار، کرایہ دار، پٹہ پر لینے والا مکتر ثان: شکمی پٹہ دار، شکمی کرایہ دار، کَرِّیٌ: شوربہ دار سالن، سالن۔
○ کَرِیطَۃ جمع کَرَارِط: چھکڑا، مال برداری کی گاڑی، کَرَارِطی: چھکڑابان۔ کُرَیْك جمع کُرَیْکات: بیلچہ۔ کَرِیم: کریم۔ کریم الحِلاقَة: شیونگ کریم۔ کَرِیمَة: کریم، (مسالہ کے طور پر پیش کردہ) ایک قسم کی گاڑھی چٹنی۔

کز: کَزَّ ـُ کَزًّا الشیءَ: کوتنگ کرنا۔ ـــ ت خُطاہ: کے قدم قریب قریب ہونا۔ ـــ ت المرأۃُ د ملجها: عورت کا بازو بند کو بازو سے بھر دینا۔ ـــ کَزَازَۃً و کُزُوزَۃً: سکڑنا، خشک ہونا، عوام کہتے ہیں۔ کَزَّ علی اَسْنانِہ: غصے کی وجہ سے دانت پیسنا۔ کُزَّ: کو سردی سے کپکپی لاحق ہونا۔ زکام ہونا۔ اَکَزَّ اللّٰہُ فلانًا: اللہ کا کسی کو کپکپی کی بیماری لگانا صفت مفعول مَکْزُوْزٌ۔ اِکْتَزَّ: سکڑنا۔ الکَزُّ (مص) ج کُزٌّ: سکڑا ہوا یا خشک کہا جاتا ہے۔ وَجْهٌ کَزٌّ: قبیح چہرہ اور کہا جاتا ہے۔ ذَهَبٌ او جَمَلٌ کَزٌّ: یعنی بہت ٹھوس اور مضبوط سونا یا اونٹ اور کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ کَزُّ الیَدَیْنِ: فلاں بخیل ہے۔ الکَزَّۃُ: الکزُّ کی مونث، کہا جاتا ہے قَوْسٌ کَزَّۃٌ: یعنی ایسی کمان جس کی لکڑی خشک ہے مڑتی نہیں ہے اور بَکَرَۃٌ کَزَّۃٌ: یعنی تنگ چرخی الکُزَازُ: بخل۔ الکُزَازُ و الکُزَّازُ (طب): سخت سردی کی وجہ سے کپکپی یا ایک مرض کا نام ہے۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ کَزَّ ـُ کَزَازَةً و کُزُوزَةً: خشک اور سخت ہوجانا، سوکھ جانا، سوکھ کر جھریوں دار ہوجانا، سکڑ جانا، مرجھانا۔ ـــ مِن: سے نفرت و بیزاری رکھنا، پر کراہت محسوس کرنا، سے ناپسندیدگی رکھنا۔ ـــ ہ: کو سکیڑنا، تنگ کرنا۔ کُزَّ: تشنج زدہ ہونا۔ کَزَّ علی اَسْنَانِهٖ: دانت پیسنا۔ کَزّ جمع کُزّ: خشک، مرجھایا ہوا، سکھایا ہوا، رطوبت خارج کیا ہوا، سکڑا ہوا، سخت، غیر لچکدار، نہ جھکنے والا، بے لوچ، سخت۔ کَزُّ الیدین: کنجوسی والا، بخل والا، کنجوس۔ کُزَاز: کنجوسی، بخیلی۔ کُزَاز و کُزَّار: تشنج۔ کَزَازَة: خشکی، بیزاری، افسردگی، اکتاہٹ، کنجوسی، سختی، بے لوچی۔

○ کُزبَرَة و کُزبُرَة: دھنیا، کشنیز۔

○ کَزْرُونَة: پکانے کا برتن۔

کزب :۱۔ کَزِبَ ـَ کَزَبًا مُشْطُ الرِجْلِ: پاؤں کی ہڈی کا چھوٹا ہونا اور سکڑنا۔

۲۔ الکُزْبَرَةُ و الکُزْبُرَةُ و الکَزْبَرَةُ: (ن): دھنیا کا پودا، اس کا اصل گہوارہ جنوبی یورپ ہے۔ اس کے پتے گلابی یا سفید رنگ کے ہوتے ہیں یہ بعض مشروبات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کُزْبُرَةُ البئر: (ن): یہ سرخس کا ایک پودا ہے اس کے باریک باریک پتے ہوتے ہیں اور شاخیں بھی باریک ہوتی ہیں اور بالوں جیسی ملائم ہوتی ہیں یہ غاروں میں اور چشموں کے کناروں پر اگتا ہے۔

کزم :۱۔ کَزَمَ ـِ کَزْمًا: منہ بند کرنا اور چپ رہنا۔ الجوزَةَ ونحوَها: اخروٹ وغیرہ کو اگلے دانتوں سے توڑنا اور گری نکالنا۔ ـــ ہٗ: کو دانت سے سخت کاٹنا۔ کَزِمَ ـَ کَزَمًا: بخیل ہونا، بہت کھانیوالا ہونا، صفت اَکْزَم۔ کَزَّمَ البردُ اَصابعَهٗ: سردی کا انگلیوں کو سکڑا دینا۔ اَکْزَمَ: سکڑنا۔ تَکَزَّمَ الفاکهةَ: پھل کو بغیر چھیلے ہوئے کھانا۔ الکَزِمُ: تنگ ہتھیلی اور چھوٹی انگلیوں والا۔ الکَزَمُ: بہت کھانا، ناک یا انگلیوں کی کوتاہی، گھوڑے وغیرہ کے ہونٹ کی چھوٹائی اور موٹائی، بخل، کہا جاتا ہے۔ فِیْ یَدِهٖ کَزَمٌ: جبکہ افعال خیر کے لئے ہاتھ نہ کھلے۔ المنکَزِمُ: چھوٹی ہتھیلی اور قدموں والا۔

۲۔ کَزِمَ ـَ کَزَمًا: میں پیش قدمی سے ڈرنا۔ اَکْزَمَ عن الطعام: بہت کھانا یہاں تک کہ خواہش باقی نہ رہے۔ الکَزِمُ من الرجال: بزدل خائف مرد۔ الکَزُمَانُ من الرجال: اتنا کھانے والا کہ کھانا ناپسند کرنے لگے۔

کزز: الکَزُورِیْنَا (ن): ایک آسٹریلوی اور باسفک کے جزائر کا پودا، جسے تزئین کے لئے اگایا جاتا ہے۔

کس :۱۔ کَسَّ ـُ کَسًّا الشیئَ: کو باریک کوٹنا۔ الکَسِیْسُ: خشک شدہ گوشت کہ اس کو کوٹ کر باریک کر لیتے ہیں اور بطور توشہ کے سفر میں لے جاتے ہیں، شکر بقول بعض شراب جو جو اور بھٹہ سے بنی ہوتی ہے، کھجور کی نبیذ۔

۲۔ کَسَّ ـَ کَسَسًا: چھوٹے چھوٹے دانتوں والا ہونا۔ چھوٹے تالو والا ہونا صفت۔ اَکَسُّ مونث کَسَّاءُ ج کُسٌّ۔ الکَسِیْسُ: ٹوٹی ہوئی روٹی۔ المَکْسُوْسُ (مفع): ٹوٹی ہوئی روٹی۔

۳۔ کَسْکَسَ کَسْکَسَةً الشیئَ: کو باریک کوٹنا۔ الکُسْکُس (ط): آٹے اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنایا ہوا کھانا۔ الکَسْکَسَةُ (مص): وقف کے وقت مونث کی کاف کو سین کے ساتھ ملادیتے ہیں جیسے بِکِس و اَکْرَمْتُکِس، بلِكِ اور اَكْرَمْتُكِ میں یہ بنوتمیم کی لغت ہے۔ الکَسْکَاسُ: موٹے جسم کا چھوٹے قد کا آدمی۔

کسا: کَسَأَ ـَ کَسْأً ہٗ: کا پیچھا کرنا۔ الدابةَ: چوپایہ کو ہانکنا۔ ـــ القومَ: پر جھگڑے میں غالب آنا۔ ـــ ہٗ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ الکَسْءُ من اللیل: رات کا ایک ٹکڑا۔ الکَسْءُ و الکُسُوْءُ من کل شیئٍ ج اَکْسَاءٌ: پچھلا حصہ، کہا جاتا ہے۔ رَکِبَ کُسْأَهٗ: یعنی وہ گدی کے بل گرا۔ واتینا فِیْ اَکْسَاءِ الشَّهرِ: یعنی ہم مہینہ کے آخر میں آئے۔ وَمَرُّوْا فِیْ اَکْسَاءِ المُنْهَزِمِیْنَ اَوْعَلٰی اَکْسَائِهِمْ: یعنی وہ لوگ شکست خوردہ جماعت کے نشان قدم پر اور ان کے پیچھے گئے۔

کسب :۱۔ کَسَبَ ـِ کَسْبًا و کِسْبًا الشیئَ: کو جمع کرنا۔ مَالًا و عِلْمًا: مال یا علم حاصل کرنا، طلب کرنا، کمانا۔ الاثمَ: گناہ اٹھانا۔ لاهله: کے لئے کمائی کرنا۔ و کَسَّبَ اَکْسَبَ فلانًا مالًا او علمًا: کو مال یا علم حاصل کرانا۔ تَکَسَّبَ مالًا او علمًا: مال یا علم حاصل کرنا۔ ـــ الرجلُ: کمانے کی کوشش کرنا۔ ـــ و اِسْتَکْسَبَ فلانًا: کو کمائی کرانا۔ اِکْتَسَبَ مالًا او علمًا: علم یا مال حاصل کرنا، کی کمائی کرنا۔ الکَاسِبُ (فا) اَبُوْ کَاسِبٍ (ح): بھیڑیا۔ الکَاسِبَةُ ج کَوَاسِبُ (الکَاسِبُ کی مونث): الکواسب: انسان یا پرندے کے اعضاء۔ الکَسْبُ (مص): کمائی۔ الکِسْبَةُ و الکَسِیْبَةُ: کمائی۔ الکَسَّابُ و الکَسُوْبُ: بہت کمائی کرنے والا۔ المَکْسَبُ و المَکْسِبُ و المَکْسَبَةُ ج مَکَاسِبُ: کمائی۔

۲۔ الکُسْبُرَةُ (ن) دھنیا۔

کست: الکَسْتَنَةُ او القَسْطَلُ (ن): شاہ بلوط یہ "بلوط" کی جنس کا ایک پودا ہے اس کی عمر کئی سو سال ہوتی ہے۔ معتدل آب و ہوا والے ممالک مثلاً یورپ یا ترکی میں پایا جاتا ہے یہ چونا مٹی میں برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کا پھل بھون کر کھایا جاتا ہے۔ کَسْتَنَةُ الحِصَانِ او قَسْطَلَةُ الحِصَان (ن): یہ صابونی جنس کا درخت ہے موسم بہار میں اس پر سفید رنگ کے پھولوں کے گچھے نظر آتے ہیں یا ان کا رنگ گلابی ہوتا ہے اس کا پھل گندمی رنگ کا ہوتا ہے جو کہ کستنہ کے پھل جیسا ہوتا ہے لیکن یہ کڑوا ہوتا ہے کھایا نہیں جاسکتا۔

○ کَسَبَ ـِ کَسْبًا ہ کو حاصل کرنا، جیتنا، اکتساب کرنا، پیدا کرنا، کمانا۔ ـــ: نفع و فائدہ اٹھانا، استفادہ کرنا، جیتنا، کمانا، حاصل کرنا۔ کَسَبَ هُتَافًا لِ: کے لئے خوش آمدید حاصل کرنا، کیلئے با آواز تحسین و آفرین کہلوایا جانا۔ ماکسبت یَدَاهُ: آخرت میں اچھے برے اعمال کی کمائی۔ کَسَّبَ ہ ہ کو کچھ حاصل کرانا یا کرنے دینا۔ ـــ ہ: کو نفع میں حصہ لینے دینا۔ ـــ اَکْسَبَ ہ ہ کو کچھ حاصل کرانا یا کرنے دینا، کیلئے کچھ حاصل کرنا۔ ـ ہ / ہ ہ کو کا حصہ دینا، کچھ پہنچانا، اکسب مَنَاعَةً ضِدَّ: کو سے محفوظ کرنا، مستثنٰی کرنا، تَکَسَّبَ ہ کو کمانا، حاصل کرنا، پانا، اِکْتَسَبَ: بمعنی بالا نیز۔ ـــ ہ: کا کسی کے پاس ہونا، پر قابض ہونا، کا مالک ہونا۔ ـــ ہ: (کوئی نئی خوبی، رنگ، مختلف، رخ، پہلو وغیرہ) اختیار کرنا۔ کَسْب: حصول، تحصیل، اکتساب، آمدنی، کمائی، نفع، فائدہ، جوئے کی جیت، حاصل شدہ چیز، حاصل کیا ہوا علم، علم، علم و فضل، کُسُب و کُسْبَة: کھلی مَکْسَب و مَکْسِب و مَکْسِبَة جمع مَکَاسِب: نفع، فائدہ تَکَسُّب: منافع کمانا، حصول، تحصیل، اکتساب، دستیابی، آمدنی، کمائی، نفع، فائدہ۔ اِکْتِسَاب: حصول، تحصیل، اکتساب، حاصل کرنا، پانا، جیتنا۔ اکتسابٌ بمرورِ الزمان: بطویل قبضہ کی بنا پر حق ملکیت۔ کَاسِب: جیتنے والا، کمانے والا، مہیا کرنے والا، روزی رساں۔ مُکْسِب: نفع بخش، پر منفعت۔ کُسْبُرَة: (بمعنی کزبرہ): دھنیا، کشنیز، کُسْتُبَان جمع کَسَاتِیْبِیْن: انگشتانہ، شام، چھلا، سیتے وقت انگلیوں کی حفاظت کے لئے پہنا جانے والا چھلا۔

○ کُسْتَك و کُسْتِیك جمع کَسَاتِك: گھڑی کی چین

○ کُسْتُلِیْتَة و کُسْتَلِیْتَة: کباب، پسندے، تکہ بوٹی۔

کسح :۱۔ کَسَحَ ـَ کَسْحًا البیتَ: گھر میں جھاڑو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دینا۔ ـــ ت الریحُ الارضَ: ہوا کا مٹی کو اڑا لے جانا۔ ـ الشیئَ: کو کاٹنا اور لے جانا، (کہا جاتا ہے۔ اَتَیۡنَا بَنِیۡ فُلَانٍ فکَسَحۡنَا ھُمۡ یعنی ہم فلاں لوگوں پر پہنچے اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔) کَسِحَ ـَ کَسَحًا: ایک پاؤں بوجھل ہونے کی وجہ سے گھسٹ کر چلنا، (صفت اَکۡسَحُ ج کُسۡحَانٌ:) ہاتھ پاؤں کا بے حس ہونا، کہا جاتا ہے۔ مَا اَکۡسَحَہٗ: وہ کس قدر بوجھل ہے۔ اِکۡتَسَحَ الشیئَ: کو لے جانا، کہا جاتا ہے۔ اَغَارُوۡا عَلَیۡھِمۡ فَاکۡتَسَحُوۡ ھُمۡ: یعنی انہوں نے ان کو لوٹا اور ان کا سارا مال لے گئے۔ کَاسِحَۃُ الۡاَلۡغَامِ وتُسَمّٰی اَیۡضًا کَانِسَۃُ الۡاَلۡغَامِ: سرنگیں ہٹانے یا صاف کرنے والا جہاز Mine sweeper۔ الکَسۡحُ (مص): عاجزی۔ الکَسِحُ: وہ شخص کہ امداد طلبی پر تمہاری مدد نہ کرے۔ الکُسَاحُ: اونٹوں کی ایک بیماری۔ الکُسَاحَۃُ: کوڑا کرکٹ، ہاتھ پاؤں کی بے حسی اور اکثر پاؤں کی بے حسی کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ الکَسِیۡحُ والکَسِیۡحُ والکَسۡحَانُ: ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا۔ الاَکۡسَحُ ج کُسۡحَانٌ: ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا، لنگڑا، اپاہج۔ المِکۡسَحَۃ: جھاڑو۔ المُکَسَّحُ: چھیل کر ہموار کیا ہوا، کہا جاتا ہے۔ عُوۡدٌ مُکَسَّحٌ: ہموار لکڑی۔ جَمَلٌ مَکۡسُوۡحٌ (مفع): سخت لنگڑا اونٹ۔

۲۔ کَاسَحَ مُکَاسَحَۃً ہٗ: سے بہت سخت جھگڑا کرنا۔

○ کَسَحَ ـَ کَسۡحًا: جھاڑو دینا، صاف کرنا، صفائی کرنا، خالی کرنا۔ کَسِحَ ـَ کَسَحًا: لنگڑا ہونا، لولا ہونا۔ کَسَّحَ ہٗ: کو لنگڑا لولا کرنا۔ ـــ ہٗ: کو موڑنا، مروڑنا، ٹیڑھا کرنا۔ اِکۡتَسَحَ ہٗ: کو بہا لیجانا، سے آگے نکل جانا، ندی نالے کا پانی سے بھر کر ابل جانا اور زمین پر پھیل جانا، کو پانی سے بھر دینا۔ ـــ ہٗ: (مفتوحہ شہر) کو تاخت و تاراج کرنا، میں لوٹ مار کرنا، کو تباہ کر دینا۔ ـــ ہٗ: کو چھین لینا، اچک لینا، قبضہ میں لے لینا۔ کَسۡح: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، لنگڑا پن، فالج، لقوہ، معذوری، کُسَاح: سوکھا (بیماری) کُسَاحَۃ: فضلہ، کوڑا کرکٹ، خش و خاشاک، ردی چیزیں۔ کَسِیح: لنگڑا، مفلوج، لولا اَکۡسَح: لنگڑا، لولا، مفلوج، شل اعضاء والا، سن اعضاء والا۔ مِکۡسَحَۃ: لمبی جھاڑو۔ اِکۡتِسَاح: بہا لیجانا، اٹھا لے جانا، علیحدگی، اخراج، سیلاب کا پھیل جانا، کناروں سے بہنا، تہ آب ہونا، غرقابی۔ استحصال بالجبر، غصب، قبضہ بالجبر، ضبطی، کَاسِحَۃُ الالغام: سرنگیں ہٹانے یا صاف کرنے والا جہاز۔ مُکَسَّح: لولا، لنگڑا کیا ہوا، لولا، لنگڑا، لنگڑا شخص، مفلوج، فالج زدہ۔

کسد: ۱۔ کَسَدَ و کَسُدَ ـُ کَسَادًا و کُسُوۡدًا الشیئُ: خواہشمندوں کی کمی کی وجہ سے رائج نہ ہونا۔ ـــ ت السوقَ: بازار میں مندا ہونا۔ (شیئٌ کی صفت کَاسِدٌ و کَسِیۡدٌ اور سُوۡقٌ کی صفت کَاسِدٌ و کَاسِدَۃٌ و اَکۡسَدُ ہے اَکۡسَدَ القومُ: مندے بازار والے ہونا ـــ ت السوقُ: بازار میں مندا ہونا ـ الشیئَ: کو غیر رائج بنانا۔ الکَسِیۡدُ بمعنی الکَاسِدُ: گھٹیا۔

۲۔ اِنۡکَسَدَ ت الغنمُ اِلی الغنمِ: بکریوں کا بکریوں کے پاس واپس ہونا۔ لوٹنا۔

۳۔ الکُسۡدُ: قسط، (ایک دوا کا نام)۔

○ کَسَدَ و کَسُدَ ـُ کَسَادًا و کُسُوۡدًا: مالِ تجارت کا منڈی نہ پانا، متحرک نہ ہونا یا اچھی طرح نہ بکنا (کاروبار، منڈی کا) مندا ہونا، سست ہونا۔ اَکۡسَدَ: (منڈی) کا مندا ہونا، سست ہونا، ماند یا سرد ہونا۔ کَسَاد: سامان تجارت کی عدم فروخت، اقتصادی مندی، سرد بازاری، تجارتی جمود، معاشی انحفاص، کساد بازاری۔ مُکَاسَدَۃ: دوسرے ملک کی صنعت تباہ کرنے کے لئے وہاں مال کے انبار لگانا۔ کَاسِد و کَسِیۡد: بری طرح فروخت ہونے والا (مال) سامان تجارت کی طلب میں کمی والا (مال)، مندا (کاروبار) ماند، سرد (تجارت) سست (منڈی)۔

کسر: ۱۔ کَسَرَ ـِ کَسۡرًا العودَ و کُلَّ صلبٍ: کو توڑنا لیکن توڑنے والی چیز اس میں نفوذ نہ کر سکے۔ المتاعَ: سامان ایک ایک کر کے بیچنا۔ ـــ الشِعرَ: شعر کا وزن درست نہ کرنا۔ ـــ الحرفَ: حرف کو زیر دینا۔ الوسادۃَ: تکیہ کو موڑنا اور ٹیک لگانا۔ من طرفہ وعلیٰ طرفہ: نگاہ پست کرنا۔ العسکرَ: لشکر کو شکست دینا۔ فلاناً عن مرادہ: کو اس کی مراد سے پھیرنا ـــ الوصیۃَ: وصیت منسوخ کرنا ـــ الطائرُ جناحَیۡہِ: پرندے کا اترنے کے لئے پروں کو سمیٹنا ـــ کُسُوۡرًا الطائرُ: پرندے کا اترنے کے لئے پروں کو سمیٹنا۔ کَسِرَ ـَ کَسَرًا: کامل ہونا۔ کَسَّرَ: بمعنی کَسَرَ: جب مشدد ہو تو مبالغہ اور کثرت کیلئے ہوتا ہے۔ ـــ الکلمۃَ: (یہ حرفیوں کا اصطلاحی لفظ ہے) کلمہ کی بناوٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو جمع مُکَسَّر بنانا کہا جاتا ہے۔ کَسَّرَ الکِتَابَ عَلٰی عِدَّۃِ اَبۡوَابٍ: اس نے کتاب کو چند ابواب پر منقسم کیا ـــ ت المرآۃ ونحوُھا النورَ علی کذا فتکَسَّرَ: آئینہ نے [illegible] روشنی ڈالی اور اس پر روشنی پڑی۔

کَاسَرَ مُکَاسَرَۃً ہٗ فی البیع: سے کم قیمت کا مطالبہ کرنا۔ تکَسَّرَ: ٹوٹنا۔ ـ الشیئَ: کو توڑنا۔ اِنۡکَسَرَ: ٹوٹنا۔ ـ العسکرُ: لشکر کا شکست کھانا اور پراگندہ ہونا صفت دونوں معنی کے لحاظ سے مَکۡسُوۡرٌ ہے اور مُنۡکَسِرٌ: نہیں کہا جائیگا۔ ـــ الحرُّ: گرمی کم ہونا۔ العجینُ: گندھے ہوئے آٹے کا نرم ہونا اور خمیر ہونا۔ ـــ عن الشیئِ: سے عاجز ہونا۔ اِکۡتَسَرَ الشیئَ: کو توڑنا۔ الکَاسِرُ (فا) ج کُسَّرٌ (ح): عقاب، کہا جاتا ہے۔ عُقَابٌ کَاسِرٌ: ٹوٹ پڑنے والا یا شکار کئے ہوئے جانور کو توڑ دینے والا عقاب۔ ـ کَاسِرُ الحجر او القُلُبُ (ن): پتوار۔ الکَاسِرَۃُ ج کَاسِرَاتٌ و کُسَّرٌ و کَوَاسِرُ: الکَاسِرُ کی مونث۔ الکَوَاسِرُ: شکاری پرندے۔ الکَسۡرُ (مص): حرف کے نیچے لگائی جانے والی زیر (ـِ) بہت کم۔ ـــ ج کُسُوۡرٌ و جج کُسُوۡرَاتٌ (ع، ح): کسر، ایک سے کم عدد جیسے تہائی، چوتھائی اور اس کے مقابلہ میں صحیح ہے ـــ والکِسۡرُ ج اَکۡسَارٌ و کُسُوۡرٌ: عضو کا جزو یا گوشت والی ہڈی کا جزو (کہا جاتا ہے: اَتَیۡتُہٗ وھو یطعم الناسَ من کُسُوۡرِ الابل: میں اس کے پاس آیا وہ لوگوں کو اونٹ کے اعضاء کھلا رہا تھا) گھر کا ایک کونہ، کونہ خیمہ کا وہ کنارہ جو زمین پر لگا ہوا ہو۔ کُسُوۡرُ الاَوۡدِیَۃ: وادی کے موڑ (اور اس آخری معنی میں اس لفظ کا واحد نہیں) کہا جاتا ہے۔ ھٰذِہٖ اَرۡضٌ ذَاتُ کُسُوۡرٍ یہ زمین اونچی نیچی ہے۔ الکَسۡرَۃُ ج کَسَرَاتٌ: کَسَرَ کا اسم مرہ، زیر کی حرکت اور علامت، شکست، کہا جاتا ہے۔ وَقَعَتۡ عَلَیۡھِمُ الکَسۡرَۃُ: یعنی وہ شکست کھا گئے وبعینہ کَسۡرَۃٌ مِنَ السَّھَرِ: یعنی اس کی آنکھ میں نیند کا غلبہ ہے اور کہا جاتا ہے۔ ھُوَ ذُوۡ کَسَرَاتٍ وھَزَرَاتٍ: وہ ایسا شخص ہے جس کو ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے۔ الکِسۡرَۃُ ج کِسَرٌ و کِسۡرَاتٌ و کِسَرَاتٌ: ٹوٹی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ الکُسَارُ والکُسَارَۃُ من الحطب ونحو: کھورا چورا، چھپٹی۔ الکَسَّارُ: مبالغہ کے لئے فعال کا وزن۔ الکَسِیۡرُ ج کَسۡرٰی و کَسَارٰی: ٹوٹا ہوا۔ التکَسُّرُ (طب): ایسی حالت جس میں سردی گرمی کی وجہ سے اعضاء میں تبدیلی محسوس ہوتی ہو۔ الانکسارُ (ف): شعاعوں کا انتشار یا انعطاف التکسِیۡرُ (مص) (ہ): پیمائش۔ المَکۡسِرُ ج مَکَاسِرُ: توڑنے کی جگہ، آزمائش، دراصل یہ مِنۡ کَسۡرِکَ العُوۡدَ: (یعنی لکڑی توڑنے) سے ماخوذ ہے [illegible] پتہ چلے کہ لکڑی سخت ہے یا نرم ہے کہا جاتا ہے۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فلان طَيِّبُ المَكْسِرِ: یعنی آزمائش کے وقت اچھا ہے۔ مَكْسِرُ الشَّجَرَةِ: درخت کی جڑ یا درخت کا تنا جہاں سے ٹہنیاں توڑی جائیں۔ المُكَاسِرُ من الجيران: وہ پڑوسی جس کے مکان کا گوشہ تمہارے مکان کے گوشے سے ملا ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے۔ هُوَ جَارِي مُكَاسِرِيْ وہ میرا پڑوسی ہے کہ اس کے مکان کا گوشہ میرے مکان کے گوشہ سے ملا ہوا ہے۔ المُكَسَّرُ (مفع) من الاودية: وادی جس کے موڑ بہہ رہے ہوں۔ اَلْجَمْعُ المُكَسَّرُ: جمع سالم کی ضد، جس میں جمع بناتے وقت واحد کی حالت سلامت نہ رہے جیسے رجل سے رجال۔ المَكْسُوْرُ (مفع) ـ صَوْتٌ مَكْسُوْرٌ: کمزور آواز۔ المُتَكَسِّرُ (فا) کہا جاتا ہے رَأَيْتُهُ مُتَكَسِّرًا: میں نے اسے ست دیکھا ہے۔

۲۔ کِسْرَی و کَسْرَی ج اَکَاسِرَةُ و اَکَاسِرُ و کَسَاسِرَةُ و کُسُوْرٌ: شاہان فارس کا نام اور نسبت کرتے ہوئے کہیں گے کِسْرَوِيٌّ اگر کِسْرَی کی طرف نسبت ہو کِسْرَوِی اور کِسْرِيٌّ: (فارسیہ) الاِکْسِیْرُ: وہ چیز جو چاندی وغیرہ کو سونا بنادے لیکن یہ ان کا فضول خیال ہے (یونانیہ)

۞ کَسَرَ ـِ کَسْرًا ہ: کو توڑنا، پاش پاش کرنا، (ہڈی وغیرہ) توڑنا۔ ـ ہ: (دروازہ وغیرہ) کو توڑ کر کھولنا، (کسی چیز سے) کھولنا، زور لگا کر کھولنا، توڑنا (مجازا: طاقت، مزاحمت وغیرہ کو)، (قانونی فرض) کی خلاف ورزی کرنا، بے حرمتی کرنا، کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، (دشمن کی صفوں میں) بھگدڑ مچانا، (دشمن کو) شکست دینا، (کسی حرف صحیح کے نیچے) زیر لگانا۔ کسر خاطِرَهُ: کی امید توڑنا، توقع باطل کرنا، کا لحاظ نہ کرنا، کی برملا توہین کرنا، سب کے سامنے سبکی کرنا۔ کُسِرَتِ الرِيحُ: آندھی کا رک جانا، پرسکون ہو جانا۔ کَسَرَ الصَّمْتَ: خاموشی توڑنا۔ کَسَرَ العَطَشَ: پیاس بجھانا۔ کسره عن مرادِهِ: کو اپنا مقصد پورا کرنے سے باز رکھنا یا اس کا مقصد پورا کرنے میں حائل ہونا۔ کَسَرَ عينَهُ: کو شرمندہ کرنا۔ کسر قلبَهُ: کا دل توڑنا، کو بددل کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا، ہمت توڑنا۔ کسر من حِدَّتِهِ: کسی چیز کو کند کرنا، ٹھنڈا کرنا، ہلکا کرنا، نرم کرنا، کسی شخص یا چیز کو اعتدال پر لانا، کی سختی کم کرنا۔ کَسَّرَ ہ: کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کو پاش پاش کر دینا۔ تَکَسَّرَ: ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پاش پاش ہونا، ٹوٹنا، (روشنی کی شعاعوں کا) منعطف ہو جانا، مہذب ہونا، شائستگی سیکھنا۔ اِنْکَسَرَ: ٹوٹنا، شکست کھانا، (طاقت، شدت، سختی، تشدد کا) ٹوٹ جانا، منعطف ہونا، (گرمی وغیرہ کا) گھٹنا، کم ہو جانا، (پیاس کا) بجھنا۔ اِنْکَسَرَتْ ساقُهُ: اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کَسْرٌ: توڑنا، پاش پاش کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ـــ جمع کُسُوْرٌ: ٹوٹ پھوٹ، شگاف، رخنہ، ہڈی کا ٹوٹنا، تڑکنا، شکستگی، کڑک ـــ جمع کُسُوْرٌ: کسر، کسر عُشری و اعشاری: کسر اعشاریہ۔ و کسور (ہندسوں کے بعد) اور کچھ، کچھ اوپر جیسے جنیهٌ و کُسُوْرٌ: ایک پاؤنڈ اور کچھ، ایک پاؤنڈ اور کچھ اوپر۔ کَسْرٌ و کِسْرٌ: کسر البیت، گھر کا گوشہ، کونا۔ جثم فی کسر بيته: گوشہ نشینی اختیار کرنا، چار دیواری میں قیام رکھنا۔ کِسْرَةٌ جمع کِسَرٌ و کِسرات: (ٹوٹا ہوا) ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا۔ کَسِيرٌ جمع کَسْرَی و کَسَارَی: ٹوٹا ہوا، تڑکا ہوا، پاش پاش کیا ہوا، شکست خوردہ۔ کُسَّارَةٌ: سروتہ، صلبُ المَكْسِرِ: توڑنے میں سخت، تنومند، شہ زور، زور آور، مضبوط جسم کا، گٹھا ہوا، سخت، مضبوط۔ طَيِّبُ المكسر: آزمائش میں پورا اترنے والا، اپنی قدر و قیمت ثابت کرنے والا، عمدہ قسم کا۔ لَيِّنُ المكسر: نرم، شریف۔ جمع التكسير جمع مُكَسَّر۔ تکَسُّرٌ: ٹوٹا ہوا ہونا، توڑنا، انعطاف۔ تکسرُ الأشِعَّةِ: شعاعوں کا انعطاف۔ اِنْکِسار: ٹوٹنا، ٹوٹا ہوا ہونا، ہڈی کا ٹوٹنا، پھٹنا، خلاف ورزی، رخنہ، جلدی ٹوٹ جانا، شکست، دل شکستگی، حوصلہ شکنی، اداسی، پشیمانی، شعاعوں کا انعطاف، انکسار القلب: شکستہ خاطری، دل شکستگی، پشیمانی۔ کَاسِرٌ: توڑنے والا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، وغیرہ۔ جمع کَوَاسِرُ: سفاک (شکاری جانور) کاسِرُ الحَجَرِ: کوہ ایس کا سرخ، سفید یا زرد پھولوں کا پودا۔ طَيْرٌ کَاسِرٌ: شکاری پرندہ۔ کَوَاسِرُ الطير: شکاری پرندے۔ مَکْسُوْرٌ: ٹوٹا ہوا، تڑکا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، شکست خوردہ، ناکام؛ یکسر عاری، لفظ جس کے نیچے زیر ہو۔ مُکَسَّرٌ: ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، پاش پاش کیا ہوا، ٹوٹا ہوا، ٹوٹی پھوٹی (زبان)۔ مُکَسَّرَات: بادام اور سخت پوست کے گری دار میوے۔ جمع مُکَسَّر: ٹوٹی ہوئی جمع۔

۞ کَسْرُوْنة: پکانے کا برتن۔

کَسَعَ: ا۔ کَسَعَ ـَ کَسْعًا ہ: کو دھتکارنا، دھتکارتے ہوئے پیچھا کرنا۔ کے چوتڑوں پر ہاتھ یا لات سے مارنا۔ ـ السفينةَ في البحر: کشتی کو سمندر میں اتارنا اور چلانا ـــ ہ بکذا: کو کا تابع بنانا، کہا جاتا ہے۔ وَرَدَتِ الخَيْلُ يَكْسَعُ بعضها بَعْضًا: گھوڑے اس حال میں آئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے تھے، اور کہا جاتا ہے۔ اِتَّبَعَ فُلانٌ اَدْبَارَهُمْ يَكْسَعُهُمْ بِالسَّيْفِ: فلاں ان کے پیچھے گیا اور وہ ان کو تلوار سے دھتکار رہا تھا۔ کَسَعْتَ الرَّجُلَ بِمَا سَاءَهُ: جبکہ گفتگو کرے اور آخر میں ایسی بات کہے جو تکلیف دہ ہو۔ الکُسْعَةُ: کام کرنے والے بیل، گدھے (کیونکہ انہیں چھڑی کے ساتھ ہانکا جاتا ہے) غلام

۲۔ کَسِعَ ـَ کَسَعًا و اِکْتَسَعَت الخيلُ باذنابها: گھوڑوں کا ٹانگوں میں دم دبانا۔

۳۔ تکَسَّعَ في ضلاله: گمراہی کی انتہا کو پہنچنا۔

۴۔ الکَسَعُ في الخيل: گھوڑے کے کھر کے پاس جوڑ کے ارد گرد سفیدی۔ الکُسَعُ: روئی کے ٹکڑے۔ الکُسْعَةُ ج کُسَعٌ: پیشانی پر سفید داغ، پرندے کی دم کے نیچے سفید پر۔ الاَکْسَعُ من الخيل: کھر کے پاس جوڑ کے ارد گرد سفیدی والا گھوڑا ـــ من الطير: دم کے نیچے سفید پر والا پرندہ ـــ رَجُلٌ مُکَسَّعٌ: کنوارا مرد۔

کسف: ا۔ کَسَفَ ـِ کَسْفًا اللّٰهُ الشمسَ او القمرَ: کو اللہ کا گرہن لگانا ـــ الشيئَ: کو ڈھانکنا۔ بَصَرَهُ: نگاہ پست کرنا۔ ـت الشمسُ النجومَ: آفتاب کی روشنی کا ستاروں پر غالب آنا ـــ هُ الحزنُ وغيرُهُ: غمگین کر دینا ـــ کُسُوْفًا تِ الشمسُ: آفتاب میں گہن لگنا، (سورج کو گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جائے۔) ـ و جهُهُ: تیوری چڑھانا ـــ تْ حالُهُ: برا حال ہونا۔ بالُهُ: کے جی میں برا خیال آنا، کی امید کا کھوٹا ہونا۔ تَکَسَّفَتِ الشمسُ: بمعنی کسفت۔ اِنْکَسَفَتِ الشمسُ والقمرُ: آفتاب اور ماہتاب میں گہن لگنا۔ الکَاسِفُ (فا): کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ کَاسِفُ البَالِ: فلاں برے حال والا ہے۔ وکَاسِفُ الوَجهِ: ترش رو۔ يَوْمٌ کَاسِفٌ: سخت و خوفناک دن۔ رَجُلٌ کَاسِفٌ: غمگین مرد جو غم کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہو اور اس کا رنگ فق ہو چکا ہو۔ الکَسْفُ (مص): عربوں کی ضرب المثل ہے۔ اَکُسْفًا وَاِمْسَاکًا: یعنی کیا ترش روئی اور بخل بھی؟ یہ مثال ترش رو اور بخیل کے لئے بولی جاتی ہے۔

۲۔ کَسَفَ ـِ کَسْفًا الثوبَ: کپڑا کاٹنا ـــ کُسُوْفًا اَمَلُهُ: کی امید منقطع ہونا۔ کَسَّفَ الشيئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الکِسْفَةُ ج کِسْفٌ و کِسَفٌ و اَکْسَافٌ و کُسُوْفٌ: ٹکڑا۔ الکَسِيفَةُ: ٹکڑا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

○ کَسَفَ ـِ کُسُوفًا: تاریک ہونا، یا ہو جانا (سورج) کو گرہن لگنا۔ ــــ ہ: کو سرزنش کرنا، کو شرمندہ کرنا۔ اِنْکَسَفَ: گرہن لگنا، شرمندہ ہونا، شرمانا۔ کُسَف: اندھیرا ہونا، اندھیرا، تاریکی، کُسُوف حجاب، پوشیدگی، گرہن، گہن، اندھیرا، تاریکی، سورج گرہن۔ انکساف بمعنی بالا۔ کاسِف غمگین، شکستہ خاطر، رنجیدہ، آزردہ، اداس، افسردہ، دل، سرنگوں، تاریک۔

○ کَسْکَسَ: پیسنا، سفوف بنانا، کوٹنا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا۔ کُسْکُسُو اور کُسْکُسِی شمال مشرقی افریقہ کا ایک کھانا۔ کُسْکاس و کَسْکاس: چھلنی جس سے یہ کھانا تیار کیا جاتا ہے۔

کسل: ۱۔ کَسِلَ ـَ کَسَلًا و تَکاسَلَ: کاہل ہونا جس کام میں سستی نہ کرنا چاہئے اس میں سستی کرنا۔ صفت کَسِل و کَسْلانُ ج کَسالَى و کُسالَى و کَسْلَى و کَسالَى مونث کَسِلَۃ و کَسْلانَۃٌ و کَسْلَى۔ أَکْسَلَ الامرُ فلانًا: کو معاملہ کا کاہلی میں ڈالنا۔ الکَسالَۃُ: بے کاری۔ الکَسُولُ کاہل، ناز پروردہ لڑکی کا وصف ہے جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔ المِکْسالُ: کاہل (مذکر و مونث) ناز پروردہ لڑکی جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔ نَسَبٌ مِکْسَلٌ: وہ نسب جسے سرداری اور افعال خیر میں خود داری نہ ہو۔ المَکْسَلَۃُ: جو چیز کاہلی کا سبب بنے، کہا جاتا ہے۔ الشِّبَعُ مَکْسَلَۃٌ: آسودگی کاہلی کا باعث ہے اور فلانٌ لاتُکْسِلُہُ المَکاسِلُ: فلاں کو کاہلی کے اسباب کاہل نہیں کرتے۔

۲۔ الکِسْلُ و المِکْسَلُ: دھنیا کے کمان کی تانت جبکہ اتار دی جائے۔

○ کَسِلَ ـَ کَسَلًا: سست ہونا، کاہل ہونا، وقت بے کار کھونا۔ کَسَّلَ ہ: کو سست، کاہل، یا بے پروا بنانا۔ تَکاسَلَ: بمعنی کَسِلَ کَسَل: سستی، کاہلی، بے پروائی، غفلت، بے عملی، نکما پن۔ کَسِل و کَسُول: سست، کاہل، بے کار۔ کَسْلانُ مونث کَسْلانَۃ و کَسْلَى جمع کَسالَى و کُسالَى و کَسْلَى: سست کاہل، نکما، آرام طلب، بیکار، یونہی پڑا ہوا، بے عمل۔ مِکْسال: جس کی ہڈیوں میں سستی پڑی ہو، کاہل الوجود، تَکاسُل: سستی، کاہلی، مٹھاپن، آرام طلبی، نکما ہونا، مُتَکاسِل: سست کاہل، آرام طلب، نکما، بے ہمت

کسم: ۱۔ کَسَمَ ـِ کَسْمًا الیابسَ: خشک چیز کو ہاتھ سے چورا کرنا۔ ــــ علٰی عیالہ: اپنے عیال کے لئے روزی کمانے کے لئے محنت کرنا۔ ــــ نارَ الحروب: لڑائی بھڑکانا۔ الکُسْمُ (مص): خشک چیز کا چورا جو ہاتھوں میں باقی رہ جائے۔ الکُسُومُ: بگڑ گزرنے والا۔

۲۔ الکَسْمُ عِنْدَ العامَّۃِ: متناسب جسم کہتے ہیں فُلانَۃٌ جَمِیلَۃُ الکَسْمِ: فلاں عورت خوبصورت جسم کی مالک ہے۔ الکَیْسُومُ: بہت گھاس، کہا جاتا ہے۔ ہٰذِہٖ رَوْضَۃٌ کَیْسُومٌ و یَکْسُومٌ: یہ سرسبز و شاداب اور گنجان باغ ہے۔ خَیْلٌ اَکاسِمُ: بہت سے گھوڑے جو ایک دوسرے کے اوپر ہوں۔ رَوْضَۃٌ اُکْسُومٌ: ج اَکاسِیمُ: گنجان و سرسبز باغ۔

○ کَسَمَ ـِ کَسْمًا علی عیالہ: اپنے گھر والوں کے لئے روزی کمانا۔ کَسَّمَ ہ: کی شکل بنانا، کو صورت دینا، متشکل کرنا، کو شکل دینا۔ کَسْم: لباس کی قطع، کاٹ، لباس۔ پوشاک، فیشن، شکل، صورت، طریقہ، انداز۔ کَسِیم: ٹیکس، محصول، بلدیاتی محصول۔ تَکْسِیم: بنانا، شکل دینا، تشکیل دینا، ڈھالنا، نقش بنانا مُکَسَّم: خوشنما، خوش شکل، طرح دار، دیدہ زیب۔

کسو: کَسا یَکْسُو کَسْوًا الثوبَ فلانًا: کو کپڑے پہنانا۔ ــــ ہ شِعْرًا: کی اشعار سے مدح کرنا۔ کَسِیَ یَکْسَى و کَسِيَ کَسًا الثوبَ: کپڑا پہننا۔ اَکْسَى الثوبَ فلانًا: کو لباس پہنانا تَکَسَّى تَکَسِّیًا بالکساء: کپڑا اوڑھنا، پہننا۔ اِکْتَسَى: لباس پہننا۔ ــــ ت الارضُ بالنبات: نباتات سے چھپ جانا۔ اِکْتَسَیْتُہٗ ثَوْبًا: میں نے اسے کپڑے پہنائے۔ اِسْتَکْسَى فلانًا: کسی سے لباس مانگنا۔ الکاسِي: (فا) لباس پہننے والا ج کُساۃٌ۔ الکِساءُ ج اَکْسِیَۃٌ: کپڑا۔ الکُسْوَۃُ و الکِسْوَۃُ ج کُسًى و کِسًى: لباس۔ الاَکْسَى: بہت پہننے والا، بہت لباس دینے والا، عربوں کی ضرب المثل ہے۔ ہُوَ اَکْسَى مِنْ بَصَلَۃٍ: یہ مثال اس شخص کے لئے بولتے ہیں جو بہت زیادہ کپڑے پہنے۔

۲۔ کَسِيَ یَکْسَى کَساءً: بزرگ ہونا۔ کاسَى مُکاساۃً فلانًا: پر فخر کرنے میں غالب آنا۔ الکَساءُ: بزرگی و شرافت۔

○ کَسا ـُ کَسْوًا ہ ہ: کو کچھ پہنانا، (پوشاک) پہنانا، کو میں ملبوس کرنا، کو کچھ اڑھانا۔ ــــ ہ ہ/ب: کو سے آراستہ کرنا، سے باندھنا، کو (غلاف) چڑھانا، پر (استر) لگانا کو سے منڈھنا، پر خول چڑھانا، (گوٹ) لگانا، کچھ لگانا، کو میں بند کرنا، کو سے ڈھکنا، پر (کچھ) رکھنا۔ کساہ صبغۃ کذا: کوئی شکل / وضع قطع دینا، کو کسی جیسا دکھانا۔ کَسِيَ ــ کَسًا: پوشاک پہننا۔ اَکْسَى [illegible] کچھ پہنانا [illegible]

تَکَسَّى: لباس پہننا۔ ــــ ب: میں ملبوس ہونا، سے سنورنا، کچھ پہننا، سے اپنے آپ کو ڈھانپنا۔ اِکْتَسَى: بمعنی بالا نیز، (درخت کا) پتے نکالنا۔ کِسْوَۃ جمع کُسًى و کِسًى و کَساوٍ: لباس، کپڑا، کپڑے، پوشاک، کپڑوں کا جوڑا، وردی، (دیواروں وغیرہ کی) آرائش، استرکاری، تختہ بندی، کپڑے لٹکانا، نیا پلستر۔ الکِسْوَۃ الشریفۃ: غلاف کعبہ۔ کِسْوَۃ التشریفۃ: تقریبات میں پہننے والا لباس، جشن کی وردی۔ کِساء جمع اَکْسِیَۃ: لباس، پوشاک۔

کسی: الکُسَى ج اَکْساءٌ: چوتڑ کا پچھلا حصہ، ہر چیز کا پچھلا حصہ کہا جاتا ہے۔ رَکِبَ اَکْساءَہٗ: وہ گدی کے بل گرا۔

○ کَشَّ ـِ کَشًّا مِن: سے اچھل کر پیچھے ہٹنا (خوف وغیرہ کی وجہ سے) کُشَّۃ: بالوں کی لٹ۔

○ کُشْتُبان و کُشْتُبان جمع کَشاتِبین: انگشتانہ۔

کش: ۱۔ کَشَّ ـِ کَشًّا و کَشِیشًا الزندُ: چقماق سے آگ نکلتے وقت سائیں سائیں کی آواز نکلنا۔ ــــ ت الجَرَّۃُ: شراب کے مٹکے میں جوش آنا۔ و ــــ کَشِیشًا الجَمَلُ: اونٹ کا پہلی مرتبہ بڑبڑانا۔ ــــ ت الحیَّۃُ: سانپ کی کھال سے آواز نکلنا۔ ــــ تِ البقرۃُ: گائے کا آواز نکالنا۔ تَکاشَّتِ الافاعی: سانپوں کا آپس میں آواز نکالنا۔ الکَشِیشُ (مص): شراب کے جوش کی آواز۔

۲۔ کَشَّ ـِ کَشًّا الرجلَ وغیرَہٗ: کو دھتکارنا، ڈانٹنا۔ ــــ الدجاجۃَ: مرغی کو کش کش کہہ کر ڈانٹنا (عامیہ)۔ ــــ الدیکُ: کمزور ہونا اور دوسرے مرغ سے شکست کھا جانا (عامیہ)

۳۔ الکُشُّ: وہ چیز جس سے کھجور کے درخت کو گابھا دیا جائے۔ الکُشَّۃُ: پیشانی یا سر کے اگلے حصہ کے بالوں کا گچھا۔

۴۔ کَشْکَشَ کَشْکَشَۃً: بھاگ جانا۔ ــــ ت الحیَّۃُ: سانپ کا اپنی جلد سے آواز نکالنا۔ الکَشْکَشُ ج کَشاکِشُ: خوبصورتی کے لئے کپڑے کے بارڈر وغیرہ پر کی گئی کڑھائی۔ ثَوْبٌ مُکَشْکَشٌ: دلکش کڑھائی والا کپڑا (فارسیہ) الکَشْکَشَۃُ (مص): کاف ضمیر خطاب مونث کو شین سے بدل دینا۔ جیسے اَکْرَمْتُشِ و عَلَیْشِ: بجائے اَکْرَمْتُکِ اور عَلَیْکِ کہنے کے۔

کشا: ۱۔ کَشَأَ ـَ کَشْأً الشیءَ: کو چھیلنا۔ فلانًا بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ کَشِيَ ـَ کَشًا و کَشاءً

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ثُ يدُهُ: کا ہاتھ پھٹنا، جھری دار ہونا۔تَکَشَّأَ الشيئُ: چھل جانا۔

٢۔کَشَأَ ـــ کَشْأً اللحمَ: گوشت بھون کر خشک کرنا صفت کَشِيٌ ـــ الرجُلُ: بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا کھانا۔الشيئَ: کو اگلے دانتوں سے کاٹ کر کھانا۔ وکَشِئَ ـَ کَشْأً وکَشَاءً الرجُلُ من الطعام: کو شکم سیر ہو کر کھانا صفت کَشِئٌ وکَشِيٌ۔ کَشَّأَکَشِئةَ اللحمَ: خشک بھنا ہوا گوشت کھانا۔اَکْشأَ اللحمَ: گوشت بھون کر خشک کرنا۔ الرجُلُ: بھونے ہوئے گوشت کا ٹکڑا کھانا۔تَکَشَّأَ اللحمَ: خشک بھنا ہوا گوشت کھانا ـــ الرجُلُ من الطعام: کو پیٹ بھر کر کھانا۔الکَشِئُ: بھنا ہوا اور پکا ہوا گوشت۔

٣۔الکُشَاۃُ: عیب، کہا جاتا ہے مافي جَسَدِہٖ کُشَاۃٌ: اس کے جسم میں کوئی عیب نہیں۔

کشب: کَشَبَ ـِ کَشْبًا و کَشَّبَ اللحمَ: بہت گوشت کھانا۔

کشت: الکُشْتُبَان ج کَشَاتِبِیْنَ: انگشتانہ۔(درزی جسے، انگلی پر چڑھا کر سوئی استعمال کرتا ہے) زَھْرُ الکُشْتُبَان: ایک نباتاتی پودا۔

کشث: الکَشُوثُ والکُشُوثُ والکُشُوثٰی والکَشُوثٰی والکَشُوثَاءُ: ایک قسم کی طفیلی نباتات جس کی جڑ اور پتے نہیں ہوتے۔ پھول چھوٹے اور گول ہوتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے۔

○ کَشَحَ ـَ کَشْحًا له بالعداوۃ: سے نفرت کرنا، سے دل میں دشمنی رکھنا ـــ ھم: (ہجوم) کو منتشر کرنا، تتر بتر کرنا ـــ ہ: کو ہانک کر لیجانا، کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا۔کاشحه بالعداوۃ: بمعنی کَشَحَ له بالعداوۃ اِنکَشَحَ: منتشر ہونا، تتر بتر ہونا، دور ہونا، زائل ہونا۔ ـ کَشْح جمع کُشُوح: کولھے کا خط، پٹھا، کولھا، پہلو، جانب، کمر، کوزی طَوٰی کشحَهُ علٰی: کو اپنے تک رکھنا، کو راز میں رکھنا طَوٰی کشحَهُ (کشحًا) عن: کسی سے رخ موڑنا، سے تعلقات ختم کر دینا۔ ولَّاہُ کَشْحَهُ: کو فراموش کر دینا۔کُشاحَة: خفیہ اور چھپی دشمنی، نفرت، آزردگی، دل میں بیٹھا ہوا کینہ، تلخی، بغض۔کاشِح: چھپا دشمن۔

کشح: اکَشَحَ ـَ کَشْحًا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا ـــ القومَ: کو پراگندہ کرنا، دھتکارنا ـــ البعیرَ: اونٹ کے پہلو میں داغ لگانا ـــ ہ: کے پہلو پر داغ دینا۔له بالعداوۃ: سے دشمنی کرنا ـــ عن الماء: پانی پر سے واپس ہونا ـــ الطائرُ: پرندے کا تیز واپس آنا۔الظلامُ اوالضوءُ: تاریکی یا روشنی کا زائل ہونا۔العودَ: لکڑی چھیلنا یا اس کی چھال اتارنا۔کُشِحَ الرجُلُ: پہلو پر داغ دیا جانا صفت مَکْشُوحٌ ـــ القومُ عن الماء: پانی سے ہٹ کر متفرق ہونا۔ پراگندہ ہونا۔کَشِحَ ـَ کَشَحًا: کے پہلو کا درد کرنا۔ کَشَّحَ البعیرَ: اونٹ کے پہلو میں داغ لگانا ـــ ہ: کے پہلو پر داغ دینا ـــ العود: لکڑی چھیلنا، کی چھال اتارنا ـــ ہ عند العامة: کو بھگانا یا دھتکارنا کہا جاتا ہے کَشَّحَ الذُبَابَ: مکھی کو بھگانا یہ کَشّ سے تبدیل شدہ ہے۔کَاشَحَ کِشَاحًا ومُکَاشَحَةً فلانًا بالعداوۃ: سے دشمنی رکھنا۔اِنْکَشَحَ القومُ عن الماء: پانی سے ہٹ کر متفرق ہونا، بکھرنا۔ الکَاشِحُ (فا): پوشیدہ دشمنی رکھنے والا اور بقول بعض وہ شخص جو دشمنی کی بناء پر پہلو تہی کرے۔الکَشْحُ (مص) من الجسم ج کُشُوحٌ: پہلو، کہا جاتا ہے طَوٰی کشْحَهُ علَی الامْرِ: اس نے کام پر ہیشگی کی اور کہا جاتا ہے طَوٰی کَشْحَهُ عَنْ فُلَانَ اَوْطَوٰی کَشْحًا عَنْهُ: یعنی اس نے اس سے پہلو تہی کی اور اعراض کیا۔الکَشَحُ (طب): پہلو کی بیماری جس پر داغ دیا جاتا ہے اور بعض کے بقول ذات الجنب کو کہتے ہیں۔الکِشَاحُ: پہلو کا داغ۔الکُشَاحَةُ: باطنی عداوت اور قطع تعلق۔المِکْشَاحُ: کلہاڑا ـــ و المِکْشَحُ: تلوار کی دھار۔

٢۔کَشَحَ ـَ کَشْحًا ت الدابَّةُ: چوپائے کا ٹانگوں کے درمیان دم دبانا۔

کشد: کَشَدَ ـِ کَشْدًا الشیئَ: کو دانتوں سے کاٹنا۔ ـــ الناقةَ: تین انگلیوں سے اونٹنی کا دودھ دوہنا۔ اَکْشَدَ: خالص مکھن بنانا۔الکِشْدَۃُ: مکھن۔الکَاشِدُ والکَشَدُ والکَشُوْدُ ج کُشُدٌ: اہل وعیال کے لئے بہت کمانے والا۔

کشر: اکَشَرَ ـِ کَشْرًا عن اَسنَانِهٖ: ہنسی وغیرہ میں دانت نکالنا اور اس سے اسم الکِشْرَۃُ۔السبعُ عن نابه: درندے کا مقابلے میں دانت دکھانا ـــ فلانٌ لَهُ: پر چیتے جیسا بننا۔کَشَّرَ عن اسنانه: بمعنی کَشَرَ۔ تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔کَاشَرَ مُکَاشَرَۃً ہٗ: باہم ہنسنا، باہم دانت نکالنا۔اَکْشَرَ له عن انیابه: کو دھمکی دینا۔تَکَشَّرَ: دانت نکالنا۔المَکْشَرُ: انگور کا خوشہ جس سے انگور کھائے جا چکے ہوں۔الجَارُ المُکَاشِرُ (فا): قریبی پڑوسی۔

٢۔کَشِرَ ـَ کَشَرًا: بھاگنا۔

٣۔الکَشْرُ: خشک روٹی۔

○ کَشَرَ ـِ کَشْرًا و کَشَّرَ: دانت دکھانا، منہ بنانا۔علی: پر کھس نکالنا، سے مسکرانا ـــ: گھورنا، قہر آلود نگاہیں ڈالنا۔کَشَّرَ عن اسنانه: دانت دکھانا۔کشر عن نابه (انیابه): دانت دکھانا۔کِشْرَۃ: بنا ہوا منہ، رونی صورت۔تَکْشِیرَۃ: دانتوں کی چمک، دمک، کوندھو۔ جاری مُکاشِری: وہ میرا سب سے نزدیک پڑوسی ہے۔

کشط: کَشَطَ ـِ کَشْطًا الشیئَ: ڈھکی ہوئی چیز کو کچھ کھولنا ـــ الجلَّ عن الفرس والغطاءَ عن الشیئ: جھول کو گھوڑے سے یا ڈھکنے کو کسی چیز سے اتارنا، ننگا کرنا ـــ الحرفَ: کو موقع سے ہٹا دینا۔ ـالبعیرَ: اونٹ کی کھال اتارنا۔تَکَشَّطَ السحابُ فی السماء: آسمان میں بادل ٹکڑے ٹکڑے اور متفرق ہونا۔اِنْکَشَطَ: اتارا جانا۔ننگا ہونا۔ الروعُ: خوف زائل ہونا۔اِسْتَکْشَطَ الشیئَ: کَشَطَهٗ: کا ہم معنی ـــ البعیرُ: اونٹ کی کھال اتارنے کے وقت کا قریب ہونا۔الکِشَاطُ: انکشاف، اتری ہوئی کھال۔الکَشَّاطُ: قصاب۔الکَشْطَةُ: کھال اترے ہوئے اونٹوں کے مالک۔

○ کَشَطَ ـِ کَشْطًا ہ: لپٹا ہوا کاغذ، (پوشش وغیرہ) اتارنا، (کچھ) اتارنا، نکالنا، (لکھی ہوئی چیز) محو کرنا، مٹا ڈالنا، (کچھ) الگ کرنا۔ ہ ب: کو سے کھرچنا، چھیلنا، رگڑ کر صاف کرنا۔مِکْشَط: چھیلنے والا چاقو۔

کشع: کَشَعَ ـــ کَشْعًا القومُ عن قتیلٍ: قوم کا مقتول سے جدا ہو جانا۔کَشِعَ ـَ کَشَعًا: بددل ہونا، زچ ہونا۔

کشف: اکَشَفَ ـِ کَشْفًا و کَاشِفَةً الشیئَ وعن الشیئ: کو ظاہر کرنا، کھولنا، کہا جاتا ہے کَشَفَ اللّٰہ غَمَّهٗ اللہ اس کے غم کو زائل کرے۔اور کہا جاتا ہے کَشَفَتْهُ الکَوَاشِفُ: یعنی بدنامیوں نے اسے رسوا کر دیا۔کَشِفَ ـَ کَشَفًا: شکست کھانا۔ الرجُلُ او الفرسُ: آدمی یا گھوڑے کا کھلی ہوئی پیشانی والا ہونا۔کَشَّفَ الشیئَ: کو کھولنا، ظاہر کرنا ـــ فلانًا عن الامر: کو بات ظاہر کرنے پر مجبور کرنا۔کَاشَفَہٗ بکذا: کو سے خبردار کرنا۔کو پر ظاہر کرنا۔ ـــ ہٗ بالعداوۃ: سے کھلم کھلا دشمنی کرنا۔اَکْشَفَ: ہنسنے میں مسوڑھوں کو ظاہر کرنا۔تَکَشَّفَ الشیئُ: ظاہر ہونا۔ ـــ البرقُ: بجلی کا آسمان پر پھیلنا ـــ الرجُلُ: رسوا ہونا۔تَکَاشَفَ القومُ: ایکدوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنا، ایک دوسرے کے راز فاش کرنا۔اِنْکَشَفَ الشیئُ: ظاہر ہونا۔اِکْتَشَفَ الشیئَ: کو ظاہر کرنا،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کھولنا،اسی سے ہےالاکتشافات: ان نئی تحقیقات
کے لئے جو طبی اور صنعتی امور کے متعلق ہوں
اِسْتَكْشَفَ عن الشیی: کوظاہر کرنیکا مطالبہ کرنا۔
الكَاشِفُ ج كَشَفَةٌ(فا) ۔الكَاشِفَةُ (مص) ج
كَوَاشِفُ۔ الكاشف کی مونث۔رسوائی۔
الكَشْفُ (مص) ـــ عند اصحاب الجمارك
(کسٹم والوں کے نزدیک) ایک کاغذ جس پر سامان کی
مقداراوراس کاریٹ درج ہوتا ہے۔عند العروضيين:
(اہل عروض کے نزدیک) ساتویں متحرک کا گرا دینا
جیسا کہ مفعولات میں تاءکوگرادیااور مفعولا بن گیا
جس کومفعولن کی طرف منتقل کرلیا ـــ الالهی عند
الصوفيين: وصال الٰہی کے مختلف طریقے اپنا کرصوفی
پر حقائق الٰہیہ کا انکشاف۔صوفیاء کے نزدیک اہل
کشف سے مراد وہ لوگ ہیں جو تصوف میں اس اعلیٰ
مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ ظاہری نگاہ کے بجائے
روحانی نگاہ سے حقائق کائنات کو دیکھ لیتے ہیں۔
الكَشَفُ: سر کے اگلے حصے کے بال گرجانا، پیشانی
کے بالوں کا گھنگریالے بن جانا یہ چند بال ہوتے ہیں
جو پیشانی پر ابھرے ہوتے ہیں۔الكَشَفَةُ: سر کے
اگلے حصہ میں بال گرنے کی جگہ۔الكَشَّافُ: اسم
مبالغہ سے فعال کا وزن کہاجاتا ہے۔هُوَ كَشَّافُ
الغُمَمِ: وہ غموں کو زائل کرنے والا ہے ـــ ج
كَشَّافَةٌ: بوائے سکاؤٹ۔تہذیبی ریاضی وانسانی
تنظیم کارکن۔الكَشْفِيَّةُ: تہذیبی ریاضی انسانی تنظیم۔
بوائے سکاؤٹ تنظیم۔الكَشِيْفُ بمعنی مکشوف کھلا ہوا،
ظاہر۔الاَكْشَفُ: جس کے سر کے اگلے حصے کے بال
گرگئے ہوں۔وہ شخص جس کے پیشانی کے بال
گھنگریالے ہوں۔وہ جس کے پاس لڑائی کے وقت
نہ ڈھال ہو اور نہ خود، لڑائی میں شکست خوردہ۔
الكَشْفَاءُ: الاکشف کی مونث ہے۔
۲۔الكَشَفُ فی الخیل: دم کے بالوں کی پیچیدگی۔
الأكشف: وہ گھوڑا جس کے دم کے بالوں
میں پیچیدگی ہو۔
○ كَشَفَ ـــِ كَشْفًا ہ عن: کو سے نکالنا، الگ کرنا،
اتارنا، کھولنا، اٹھانا۔ہ / عن: آشکارا کرنا، ظاہر کرنا،
منکشف کرنا، عیاں کرنا، فاش کرنا، بے نقاب کرنا، ننگا
کرنا، واضح کرنا، پر روشنی ڈالنا، کی توضیح کرنا، کا اظہار
کرنا، کو کھولنا، کو معلوم کرنا، ظاہر کرنا ـــ عن: کا مطالعہ
کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا، تفتیش کرنا ـــ علی: کا طبی
معائنہ کرنا۔كشف القناع عن: کسی چیز یا شخص کو
بے نقاب کرنا، کے چہرے سے نقاب اٹھانا۔كَشف
علیه طِبِّيًا: کا طبی (ڈاکٹری) معائنہ کرنا۔كشفت
الحربُ عنْ ساقِها: جنگ شدید تھی یا شدید ہوگئی،
پھیل گئی، یکایک شروع ہوگئی۔كَاشَفَ ہُ ب: کو کچھ
دکھانا، پر کچھ واضح کرنا، کو کا ثبوت دینا، کو سے آگاہ
کرنا ـــ ہ ہ / ب: کے علم میں کچھ لانا، کو کی اطلاع
دینا۔كَاشَفَهُ بالعداوة: سے کھلی دشمنی واضح کرنا۔
تَكَشَّفَ: فاش ہونا، بے نقاب ہونا، کھل جانا، ننگا
ہونا، منکشف ہونا، ظاہر ہونا، منظر عام پر آنا، معلوم ہونا،
پتہ چلنا، دیکھا جاسکنا، مرئی ہونا، نظر آنا، دکھائی دینا،
واضح ہونا۔عن شی: کچھ دکھانے کے لئے پوری
طرح کھلنا۔تكشفَ الامرُ عن لاشَی: معاملہ بے
نتیجہ نکلنا۔تَكَشَّفَ عن منتهى العَجْز: خود کو یکسر
بے بس ظاہر کرنا۔اِنْكَشَفَ: (پردہ کا) ہٹنا، اٹھنا ـــ
ل: پر فاش ہونا، منکشف ہونا، ظاہر ہونا، واضح ہونا۔
اِكْتَشَفَ ہ: کو دریافت کرنا (بالخصوص سائنس کے
اصولوں کے مطابق) ـــ ہ: کو معلوم کرنا، دریافت
کرنا، کا پتہ لگانا، کو فاش کرنا۔اِسْتَكْشَفَ ہ: کو
دریافت کرنے، کی کوشش کرنا، کا کھوج لگانا، کو تلاش
کرنا، کی تحقیق کرنا، چھان بین کرنا، تفتیش کرنا، کے
متعلق حقائق جاننے کی کوشش کرنا۔: دیکھ بھال کرنا،
دشمن کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے جانا ـــ ہ:
کوئی چیز سائنس کے اصولوں کے مطابق دریافت
کرنا ـــ ہ: کا پتہ لگانا، کی نشاندہی کرنا، کو ڈھونڈ لینا۔
كَشْف: بے نقابی، دریافت، بے حجاب کرنا۔ بے
نقاب کرنا، پردہ دری، اظہار، انکشاف، تجلی، جلوہ،
تحقیق، تفتیش، تلاش، جستجو، دیکھ بھال، مطالعہ، جانچ
پڑتال، جائزہ، معائنہ، بوائے سکاؤٹ تحریک ـــ جمع
كُشُوف و كُشُوفات: رپورٹ، سرگزشت، بیان،
تفصیل، خلاصہ تحریر، مجمل بیان، فہرست، فرد، جدول،
نقشہ، گوشوارہ، چارٹ، نظام الاوقات، رجسٹر، جمع
كشوف: انکشافات، دریافتیں۔كشف طبی:
طبی معائنہ۔كشف الاقتراع: رجسٹر حاضری
كشف الحساب: بیجک (فہرست اشیاء مع قیمت)
كَشْفِی: بوائے سکاؤٹوں کا یا ان کے متعلق حركة
كشفية: بوائے سکاؤٹ تحریک۔كَشَّاف جمع
كَشَّافة: دریافت کنندہ، انکشاف کرنے والا، معلوم
کرنے والا، اختراع کرنے والا، موجد، غیر معلوم
علاقہ کی سیاحت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا،
سکاؤٹ، بوائے سکاؤٹ۔كَشَّاف كَهْرَبَائی: سرچ
لائٹ مِصباح كَشَّاف و نور كشاف جمع انوار
كشافة: [illegible]
کی سیاحت۔(دشمن علاقوں کی) دیکھ بھال، بوائے
سکاؤٹ تحریک، دشمن کی طاقت کا اندازہ کرنے کے
لئے جانا۔كِشَافی: بوائے سکاؤٹ کی۔كَشِيف:
کھلا، بے نقاب، بے پوشش۔اِكتشاف: دریافت،
گرفت، انکشاف، محل وقوع، جمع كتشافات:
(سائنسی) دریافت۔طائِرَةُ الاستكشاف: دیکھ
بھال والا طیارہ۔لاستكشاف البعيد المَدَى: دور
تک دیکھ بھال۔اِسْتِكْشَافِی: غیر معروف علاقہ کی
سیاحت کا یا اس سیاحت کے متعلق، دریافت کا،
دریافت کے متعلق، دیکھ بھال کا، دیکھ بھال کے
متعلق، مخبر یا نگران کا، مخبر یا نگران جہاز کا۔كَاشِف
جمع كَشَفَة: بے نقاب کرنے والا، ظاہر کرنے والا
وغیرہ، غیر معلوم علاقہ کی سیاحت کے مقاصد کا حامی۔
دیکھ بھال کا ذریعہ دریافت کا باعث، پتہ لگانے کا
باعث، پوشیدہ چیز کو منظر عام پر لانے والا۔ممتحن، جانچ
پڑتال کرنے والا۔تحقیقات کرنے والا، دریافت
کرنے والا، نگران، معائنہ کنندہ، انسپکٹر، کسی علاقہ کا
سربراہ، ڈسٹرکٹ چیف، ڈٹیکٹر (ریڈیو)۔كاشِف
و كاشَفة: جوہر یا مادہ جو دوسرے جوہر یا مادہ کے وجود
کا پتہ لگانے کے لئے کیمیائی رد عمل پیدا کرنے کے
لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ضَوءٌ كاشفٌ جمع اضواء
كاشِفة اونورٌ كاشِف جمع انْوَارٌ كاشِفة: سرچ
لائٹ۔زورقٌ كاشِفُ الالغام: سرنگوں کی جگہوں کی
دریافت کا جہاز، سرنگیں ہٹانے یا صاف کرنے کا
جہاز۔
○ كَاشِف بَلُّورِی: کرسٹل ڈیٹکٹر (ریڈیو)۔كاشِفُ
المُحِيط: بالابین (Pcriscope)۔بَانَ
بالكاشِف: خود کو آشکارا کرنا (واضح طور پر اور کسی غلطی
کے بغیر)۔مَكشوف: ننگا کیا ہوا، کھول کر ڈالا ہوا،
بے ڈھکا، کھلا، بے چھت، بے پوشش، بے نقاب
عریاں۔کھلا، کسی دفاع کے بغیر فوجی تنصیبات یا قلعہ
(مورچہ) بندیوں سے خالی (علاقہ) (عسکری
اصطلاح میں) کافی رقم کے بغیر۔مَكْشُوف الرأس:
بغیر ٹوپی ننگے سر۔بالمكشوف یاعلی المكشوف:
کھلم کھلا، بر سر عام۔علی الاعلان: سب کے سامنے
(دکھائی دینے والا)۔مُكْتَشِف: دریافت کنندہ۔غیر
معروف علاقوں کی سیاحت کرنے والا، انکشاف
کرنے والا۔مُكْتَشَفَات: (سائنسی)، دریافتیں،
انکشافات۔
كشك: ا۔الكَشْكُ: آب جو (فارسیہ)۔الكِشْكُ (ط):
ایک قسم کا کھانا جو موٹے ستو کو دودھ میں بھگو کر خمیر اٹھنے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے بعد پکایا جاتا ہے۔(ب) گنبد دار محل (فارسیہ)
۲۔الکَشکُول و الکَشکُولَۃُ: بھکاریوں کا برتن جس میں وہ اپنی مانگی ہوئی چیزیں ڈالتے ہیں (یہ دونوں لفظ آرامی لغت کے ہیں) بہاؤالدین عاملی کی ایک کتاب کا نام کشکول ہے کیونکہ اس میں مختلف موضوع پر مضامین ہیں۔
○ کُشک جمع اَکشاک: (اخبار فروشوں وغیرہ کا) کھوکھا، (باغ میں بنی ہوئی) چھوٹی جھونپڑی، کھیل کے میدان کا بنگلہ، لکڑی کا کیبن، کیبن، جھونپڑی، شیڈ، ٹیلیفون بوتھ (فون گاہ) سٹال، سٹینڈ (کسی میلہ وغیرہ میں) عارضی دوکان۔ کشك الاستحمام: غسل خانہ، ساحلی بچ، کُشك الاشارات: سگنل خانہ (ریلوے سٹیشن سے فاصلہ پر بنی ہوئی عمارت جہاں سے سگنل اوپر نیچے کیے جاتے ہیں اور پٹری بدلی جاتی ہے) کشك الدیدبان: سنتری خانہ۔ کُشك مُحوِّل: ٹرانسفارمر گاہ۔ کِشْكُ الماز: موصلی سفید، مارچوبہ، ناگ دون۔
○ کَشکَش: سرسر کرنا، سرسرانا، بھاگ جانا، فرار ہو جانا، چنٹ ڈالنا، چوٹی گوندھنا۔ کَشکَش جمع کَشاکِش: سیون، ٹانکا، سنجاف، مغزی، کوٹ، جھالر، حاشیہ، کنارہ۔ روایة کِشکِشِیَة: ہلکی کی نقل، عام پسند سوانگ۔ کشکول: بھکاری کا تھیلا، اخبار یا کتاب کے تراشوں کا مجموعہ، البم۔ کشمش: کشمش، مویز، مُنَقّٰی۔
○ کَشمِیر: کشمیر (پاکستان کے شمال میں واقع ایک ریاست) اب اس کے دو حصے ہیں: ایک آزاد کشمیر، دوسرا مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے قبضہ میں ہے۔ کشمیرا: نرم اونی کپڑا۔
کشم: ۱۔کَشَمَ ـِ کَشمًا القثاءَ او الجزرَ: ککڑی یا گاجر بہت حرص سے کھانا۔ کَشِمَ ـَـ کَشَمًا: پیدائشی یا خاندانی عیب دار ہونا صفت اَکشَمُ، الکُشمُ (ح): تیندوا ـــ اَنفٌ کَشِمٌ: جڑ سے کٹی ہوئی ناک۔ الاَکشَمُ: تیندوا۔ اَنفٌ اَکشَمُ: جڑ سے کٹی ہوئی ناک۔
۲۔کَشمَرَ: رونے کے لئے آمادہ ہونا ـــ انفه: کی ناک توڑ دینا۔
۳۔الکِشمِشُ و الحَبَّةُ منه، کِشمِشَةٌ (ن): کشمش، کشمش پودے کا اصلی گہوارہ یورپ اور شمالی ایشیا ہے یہ درخت پر گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے سفید یا سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے انگور کی مانند خوشے ہوتے ہیں اس کا پھل بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اور یہ مختلف قسم کے مربہ جات میں استعمال ہوتا ہے۔
○ کُشنَی: پتلے پھلی دار پودے جو چارے کے کام آتے ہیں، ایک قسم کا خودرو چارہ۔
کشو: کَشَا یَکشُو کَشوًا ہُ: کو دانتوں سے کاٹ کھانا۔
کشی: الکُشیَةُ ج کُشًی: گوہ کے پیٹ کی چربی یا اس کی دم کی جڑ۔
کص: ۱۔کَصَّ ـِ کَصًّا القومُ: اکٹھا ہونا۔ ـ کَصِیصًا الماءُ بالناس: پانی پر لوگوں کی بہت بھیڑ ہونا۔ تَکَاصَّ واِکتَصَّ القومُ: اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ الکَصِیصَةُ ج کَصَائِصُ: جماعت۔
۲۔کَصَّ ـِ کَصًّا و کَصِیصًا الصوتُ: آواز باریک ہونا۔ الکَصِیصُ: ٹڈی کی آواز۔
۳۔اَکَصَّ: بھاگنا اور شکست کھانا۔ الکَصِیصُ: خوف، تنگی، اضطراب، شدت مشقت کی وجہ سے پیچ و تاب، مکروہ۔ ناپسندیدہ۔
۴۔الکَصِیصُ: پستہ قد موٹا نرم (پلپلا) مرد۔ الکَصِیصَةُ ـ کَصَائِصُ: ہرن کو شکار کے لئے پھنسانے کا پھندا۔
۵۔کَصکَصَ: تیز چلنا۔
کصم: کَصَمَ ـِ کُصُومًا: پشت پھیرنا، پیٹھ دکھانا۔ ـــ کَصْمًا: دانتوں سے کاٹنا۔ الرجُلَ: کو سختی سے ہٹانا۔
کصی: کَصِیَ یَکصَی کَصًی: بلند مرتبہ کے بعد گھٹیا ہو جانا۔
○ کَضَّ: (کظّ)۔ تکَضَّضَ: لبریز ہونا، بھرا ہوا ہونا، منہ تک بھرا ہوا ہونا، زیادہ بوجھ لدا ہوا ہونا۔ اِکتَضَّ ب: سے لبریز ہونا، بھرا ہوا ہونا، منہ تک بھرا ہوا ہونا۔ ـ: مونہا منہ بھرا ہوا ہونا۔ تَکَضُّض: بہت زیادہ زور، حد سے زیادہ محنت، حد سے زیادہ زیر باری۔
کضل: کَضَلَ ـُ کَضلًا ہُ: کو ہٹانا۔
کظ: ۱۔کَظَّ ـُ کَظًّا الطعامُ فلانًا: کو کھانے کا زیادہ بھرنے سے سانس نہ لینے دینا۔ ـــ الغیظُ صدرَہٗ: سخت غضبناک ہونا ـــ الحبلَ: رسی باندھنا ـــ خصمَہٗ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔
ـــ کَظَاظًا و کَظَاظَةً المسیلُ بالماء: پانی کی زیادتی سے بہاؤ کی جگہ کا تنگ ہونا ـــ الامرُ فلانًا: کو غمگین کرنا، کرب میں مبتلا کرنا، بوجھل کرنا۔ کَاظَّ کِظَاظًا و مُکَاظَّةً ہُ: سے جنگ میں سخت جم کر مقابلہ کرنا۔ تَکَاظَّ القومُ: میدان جنگ کو تنگ کرنا، دشمنی میں حد سے گزرنا۔ اِکتَظَّ من الطعام: سانس نہ لینے کی حد تک کھانا بھر لینا۔ ـ المسیلُ بالماء: پانی کی زیادتی سے بہاؤ کی جگہ کا تنگ ہونا۔ المحلُّ: لوگوں سے بھر جانا ـــ ذُو الغیظ: کے سینہ کا غصے سے بھر جانا۔ الکَظُّ (مص): بہت زیادہ غضبناک، وہ شخص جس کو امور گرانبار کر دیں اور وہ عاجز ہو جائے کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَظٌّ: سخت گیر مرد۔ الکِظَّةُ: بدہضمی، زیادہ پیٹ بھر جانے کی تکلیف۔ الکِظَاظُ (مص): غم جو دل کو بھر دے، تھکن، سختی۔ الکَظِیظُ: شکم سیر، بہت زیادہ غضبناک، وہ شخص جس کو امور گرانبار کر دیں حتی کہ وہ ان سے عاجز آ جائے، بھیڑ، کہا جاتا ہے۔ عَلٰی بَاب فُلَان کَظِیظٌ: فلاں کے دروازے پر رش ہے۔ المَکظُوظُ: کھانے سے بھرا ہوا ـــ و المُکَظَّظُ: وہ شخص جس کو امور گرانبار کر دیں حتی کہ وہ ان سے عاجز آ جائے۔ بہت زیادہ غضبناک۔ طَعَامٌ مُکَظَّةٌ: بدہضمی والا کھانا۔
۲۔کَظکَظَ کَظکَظَةً السقاءَ: جیوں جیوں پانی ڈالا جائے مشک کا پھیلتا جانا۔ فلان یَتَکَظکَظُ عِندَ الاَکلِ: فلاں شخص کا جیسے جیسے پیٹ بھرتا جاتا ہے وہ سیدھا بیٹھتا جاتا ہے۔
کظب: کَظَبَ ـُ کُظُوبًا: بہت موٹا ہونا۔
○ کَظَّ ـُ کَظًّا ہ: کو بھرنا، لبریز کرنا۔ ـــ ہ: پر بوجھ ڈالنا، کے ساتھ وزن باندھنا، کو زیر بار کرنا ـــ ہ: پیٹ میں بہت زیادہ کھانا بھرنا۔ اِکتَظَّ ب: (لوگوں سے) بہت بھیڑ والا ہونا، ٹھنسا ہوا ہونا، کھچا کھچ بھرنا۔ ـ: منہ تک کھانا، جی بھر کر کھانا، سیر ہو کر کھانا ـــ ب: کو حد سے زیادہ کھایا ہوا ہونا ـــ: بافراط ہونا، وافر ہونا، بہت ہونا۔ کِظَّة: پیٹ میں ٹھونسا ٹھونسی حد سے زیادہ سیری۔ کَظِیظ: منہ تک بھرا ہوا۔ مُکتَظّ ب: سے ٹھنسا ہوا، کھچا کھچ بھرا ہوا، مونہا منہ بھرا ہوا۔
کظر: کَظَرَ ـُ کَظرًا القوسَ: کمان کے کنارے پر تانت لگانے کے لئے ودانہ بنانا۔ الزندةَ: چقماق میں ودانہ بنانا۔ الکُظرُ: کمان کے کناروں پر تانت کا حلقہ لگانے کی جگہ۔
۲۔الکُظرُ: گردوں کی چربی ـ و الکُظرَةُ: گردوں پر چربی کی جگہ جبکہ گردے نکال لئے جائیں۔ الکِظرُ: ہنسلی کی ہڈی کے درمیان کی جگہ۔
○ کُظر: پیٹھ کی چربی۔
کظم: کَظَمَ ـِ کَظمًا و کُظُومًا غیظَہٗ: غصہ نگل جانا ـــ کُظُومًا البعیرُ: اونٹ کا جگالی کرنے سے باز رہنا کہا جاتا ہے۔ ما کَظَمَ فلانٌ عَلٰی جِرَّتِہٖ: یعنی فلاں کے پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں ـــ کَظمًا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الشیئَ وعلی الشیئِ: کور و کنا۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔۔۔ النھرَ: نہر پر بند باندھنا۔ القربةَ: مشک بھرنا اور منہ باندھنا۔۔۔ البعیرَ بالکِظامة: اونٹ کو نکیل لگانا۔ کُظِمَ کُظُومًا: خاموش رہنا۔ الکَاظِمُ (فا) ج کُظَّمٌ: خاموش۔ بعیرٌ کاظِمٌ: پیاسا اونٹ۔ الکَظَمُ ج اَکْظَامٌ و کِظَامٌ: سانس کی نالی، کہا جاتا ہے۔ اَخَذَ بِکَظَمِهِ: یعنی اس کو غم میں مبتلا کر دیا۔ الکِظَامُ: بند کرنے کی چیز کہا جاتا ہے۔ اَخَذَ بِکِظَامِ الْاَمْرِ: یعنی اس نے بھروسہ کے لائق چیز کو اختیار کیا۔ الکِظَامَةُ ج کَظَائِمُ: زمین کے اندر پانی کی نالی، دو قریب قریب کنوؤں کے درمیان زیر زمین نالی۔ وادی کا دھانہ، اونٹ کی نکیل، ترازو کی رسیوں کا حلقہ، کہا جاتا ہے۔ عَقَدَ الخُیُوطَ فِی کِظَامَتَیِ المِیزَانِ: یعنی اس نے ترازو کی ڈنڈی کے دونوں حلقوں میں دھاگے باندھ دیے۔ کِظَامَةُ البَابِ: دروازہ بند کرنے کی چیز۔ اِبِلٌ کُظُومٌ: اونٹ جو جگالی نہ کرے۔ الکَظِیْمُ: دروازہ بند کرنے کی چیز۔۔۔ والمَکْظُوْمُ: مصیبت زدہ۔ الکَظِیْمَةُ ج کَظَائِمُ: توشہ دان، دو قریب قریب کنوؤں کے درمیان کی زیر زمین نالی۔

○ کَظَمَ غیظَهُ: اپنا غصہ چھپانا، دبانا۔۔ خاموش رہنا، گم سم بیٹھے رہنا۔ کَظِیْمٌ: غصہ سے بھرا ہوا۔

کظو: کَظَا یَکْظُو کَظْوًا لحمُهُ: کا گوشت سخت ہونا۔ تَکَظّٰی لَحْمُهُ سِمَنًا: موٹائی کی وجہ سے گوشت کا بلند ہونا۔ اَرْضٌ کَاظِیَةٌ: خشک زمین۔

کعّ: ۱۔ رکَعَّ ۔ِ کَعًّا و کُعُوْعًا و کَعَاعَةً و کَیْعُوْعَةً: کمزور ہونا، بزدل ہونا۔ اَکَعَّ فلانًا: کو خوف دلانا۔ بزدل بنانا۔۔۔ الخوفُ فلانًا: کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا۔۔۔ فی کلامه: کلام میں رکنا۔ الکَاعُّ: کمزور، بزدل۔ الکَعُّ: کمزور، بزدل کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ کَعُّ الْوَجْهِ: فلاں سبک رخسار ہے۔

۲۔ کَعْکَعَ کَعْکَعَةً الرجلَ: کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا۔۔۔ ہٗ عن کذا: کو سے پھیر دینا۔ فی کلامه: کلام میں رکنا۔ تَکَعْکَعَ: ارادے سے باز آ جانا۔ بزدل ہونا۔ الکُعْکُعُ: بزدل، کمزور۔

کعب: ۱۔ کَعَبَ ۔ُ کُعُوْبًا و کُعُوْبَةً و کِعَابَةً تِ الجاریةُ: لڑکی کا ابھری ہوئی پستان والی ہونا۔ صفت کِعَابٌ و کَاعِبٌ۔ کَعَبَ ۔ کُعُوْبًا الثدیُ: پستان ابھرنا۔ کَعَّبَتِ الجاریةُ: لڑکی کا ابھری ہوئی پستان والی ہونا۔۔۔ الشیئَ: کو مکعب بنانا۔ الکَاعِبُ ج کَوَاعِبُ من الجواری والثدیِ: ابھری ہوئی پستان والی لڑکی یا ابھری ہوئی پستان۔ الکَعْبُ ج کِعَابٌ و کُعُوْبٌ و اَکْعُبٌ: ہڈیوں کا جوڑ، قدم کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی، ٹخنے۔۔۔ ج کُعُوْبٌ: دو پوروں کے درمیان کی گرہ، نیزہ کی گرہ، ہر بلند و مرتفع چیز، بزرگی و شرافت کہا جاتا ہے۔ اَعْلَی اللّٰهُ کَعْبَهُمْ: اللہ ان کی شان کو بلند کرے اور کہا جاتا ہے۔ ذَهَبَ کَعْبُهُمْ: ان کی عزت تباہ ہو گئی، اور کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ عَالِی الکَعْبِ: بڑی بزرگی والا مرد۔۔۔ ج کُعُبٌ و کِعَابٌ (ھ): نرد کا مہرہ، وہ مجسم جس کی چھ پہلو ہوں جو کہ لمبائی چوڑائی موٹائی سب میں برابر ہوں۔ کَعْبُ عددٍ مّا ج کِعَاب (ع ح): ایک عدد کے لئے تین اعداد کا مساوی حاصل ضرب جیسے کعب ۶×۶×۶=۲۱۶ کا۔ الکُعْبُ: ابھری ہوئی پستان۔ الکُعْبَةُ: دوشیزگی۔ الکَعْبَةُ ج کِعَابٌ و کَعَبَاتٌ: نرد کا مہرہ، ہر چوکور مکان، جھروکہ، بیت اللہ الحرام، کیونکہ یہ مربع شکل کی عمارت ہے۔ الکِعَابُ واحد کَعْبٌ و کَعْبَةٌ: نرد کے مہرے۔ جَارِیَةٌ کَعَابٌ و مُکَعِّبٌ: ابھری ہوئی پستان والی لڑکی، کہا جاتا ہے۔ وَجْهٌ مُکَعَّبٌ: چہرہ جب وہ خشک اور ابھرا ہوا ہو۔ تَکْعِیْبُ عددٍ ما (ع ح): ایک ایسا عدد جو تین مساوی عددوں کا حاصل ضرب ہو جیسے کعب ۶، ۶×۶×۶=۲۱۶ کا ہے۔ المُکَعَّبُ (ھ): وہ جسم جس کی چھ سطحیں ہوں اور لمبائی چوڑائی موٹائی میں برابر ہوں، یعنی مُکَعَّب اور مکعب شکل کا۔ مُکَعَّبُ العدد (ع ح): چوگنے کا حاصل ضرب جیسے آٹھ دو کا مکعب ہے۔ ثَدْیٌ مُکَعَّبٌ: ابھری ہوئی پستان (یہ نادر ہے)

۲۔ کَعَبَ ۔ کَعْبًا الاناءَ: برتن بھرنا۔ کَعَّبَ الاناءَ: برتن بھرنا۔ الکَعْبُ ج کُعُبٌ و کِعَابٌ: گھی کا ٹکڑا، برتن کا باقی ماندہ دودھ۔

۳۔ کَعَبَ ۔ کَعْبًا فلانًا: خشک چیز مثلاً سر وغیرہ پر مارنا۔

۴۔ اِکْعَبَ: دوڑنا۔

۵۔ کَعْبَرَ کَعْبَرَةً ہٗ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا ٹکڑے کرنا۔ الکُعْبُرُ من العسل: شہد جو چھتہ میں جمع ہو۔ الکُعْبُرَةُ ج کَعَابِرُ: ہر جمع شدہ چیز، گوشت کا ٹکڑا، سخت گرہ دار ہڈی، سر کی جڑ، موٹا سرین، بند دست، گندم کا کوڑا کرکٹ جو صاف کرتے وقت پھینک دیا جائے، پاخانہ جو اونٹ کی دم پر خشک ہو جائے۔ کُعْبُرَةُ الکَتِفِ: کندھے کا گول حصہ۔ کُعْبُرَةُ الوَظِیْفِ: پنڈلی کے نچلے حصے کے ملنے کی جگہ۔ [illegible] الکُعْبُرَةُ النساء: عجمی اکھڑ عورت۔ الکُعْبُوْرَةُ ج کَعَابِیْرُ: گرہ، جمع شدہ، غلہ میں سے جو پھینک دیا جائے۔

○ کَعَّبَ ہ: کو مکعب بنانا، شش پہلو بنانا۔۔۔ ہ: کسی عدد کو اس سے دو دفعہ ضرب دینا جیسے 10 کو 10 سے دو بار ضرب دیا جائے تو وہ 1000 بن جاتا ہے۔ کَعْب جمع کِعَاب و کُعُوب: چھڑی وغیرہ کی گرہ، گرہ، جوڑ، ٹخنہ، گٹا، ٹخنے کی ہڈی، ایڑی (پاؤں، جوتے کی) چھلا، شام (لکڑی کی چھڑی کا)، پانسہ، مکعب، مسدس، اعلیٰ رتبہ، شہرت، عظمت، عزت، وقار۔ کعب الکتاب: کتاب کی جلد کا وہ حصہ جس پر کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے اور الماری میں قطار میں رکھی ہو تو نظر آتا ہے۔ اَرْقَی کَعْبًا: زیادہ قابل، زیادہ لائق، زیادہ اہل، زیادہ لیاقت کا حامل۔ رجلٌ عالی الکعب: ممتاز، لائق، کامیاب آدمی۔ عُلُوُّ الکعب: بلند رتبہ، نمایاں حیثیت۔ ذَهَبَ کَعْبُهُم: ان کی عظمت کے ایام جاتے رہے۔ کُعْب: پستان، سینہ۔ کَعْبَة: مسدس، مکعب، مکعب چیز۔ الکَعْبَة: مکہ کا کعبہ، (مجازاً) مزار، روضہ، اجلال و احترام کی چیز، مرکز دلچسپی۔ کَعْبِی: مکعب، مکعبی۔ کُعْبَة: کنوارپن، دوشیزگی، پاکدامنی۔ کَعَاب: ابھرے ہوئے پستانوں والی، گداز جسم کی صحت مند (لڑکی) ابو کُعَیْب: گلسوائے، گلہرے، کنبھیر۔ تَکْعِیبَة: جعفری، درخت یا بیل جس کی شاخیں لکڑی یا تاروں کے ڈھانچہ پر چڑھائی جاتی ہیں۔ تکعیبی: مکعب، مکعبی، کعبی۔ کَاعِب جمع کَوَاعِب: مکمل اور گول ابھری ہوئی چھاتی، ابھرے ہوئے پستان والی، گداز جسم کی صحتمند (لڑکی) کواعب: گداز جسم صحتمند قبول صورت لڑکیاں۔ مُکَعَّب: مکعب، کعبی، مکعب جمع مُکَعَّبَات: مکعب، مسدس۔ قدمٌ مُکَعَّبٌ: مکعب فٹ۔ متر مکعب: مکعب میٹر۔

○ کُعْبَرَة و کُعْبُوْرَة جمع کَعَابِر: گرہ دار یا پیچیدہ دنبل، پھنسی پھوڑا، رسولی، گرہ، گانٹھ، گومڑہ۔ کُعْبُرَة: کہنی سے نیچے ہاتھ کی ہڈی۔ عظم الکعبرة: کہنی سے نیچے ہاتھ کی ہڈی۔ مُکَعْبَر: گرہ دار، گانٹھ دار، ناہموار، بل دار، گرہیں پڑا ہوا، پیچ دار۔

○ کَعْبَلَ ہ: کو اڑنگا لگانا، ٹھوکر لگوانا۔

○ کَعْک واحد کَعْکَة: کیک، مختلف قسم کی پیسٹریوں کا نام۔

کعت: ا۔ اَکْعَتَ الرجلُ: تیز چلنا، غصہ سے پھولنا، بیٹھنا۔ الکُعَتُ م کُعَتَة: پستہ قد مرد۔ الکُعْتَة: شیشی کا سر بند۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ کَعْتَرَ تیز چلنا، تیز دوڑنا۔ فی مشیہ بمستانہ چال چلنا، چلنے میں لڑکھڑانا۔ الکُعْتُرُ (ح): چڑیا کی مانند ایک پرندہ۔

کعر ا۔ کَعِرَ ۔ کَعَرًا الصبیُّ: پرشکم اور موٹا ہونا۔ صفت کَعِرٌ ۔ البطنُ: پیٹ بھرنا، موٹا ہونا۔ ـــ و کَعَّرَ و اَکْعَرَ البعیرُ: اونٹ کا کوہان میں گرہ دار چربی والا ہونا۔ الکَعْرُ کوہان۔ الکَعْرَۃُ غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔

۲۔ کَعَرَ ـــ کَعْرًا ہُ فی اصطلاح العامۃ: کو شدید جھڑکنا، ملامت کرنا۔

کعز: کَعَزَ (ـ) کَعْزًا: انگلیوں سے چیز جمع کرنا۔

کعس ا۔ کَعْسَبَ کَعْسَبَۃً الرجُلُ: دوڑنا، بھاگنا، تیز چلنا یا مستانہ چال چلنا۔

۲۔ کَعْسَمَ کَعْسَمَۃً: پیٹھ دے کر بھاگنا۔ الکَعْسَمُ ج کَعَاسِمُ و کَعَاسِیْمُ (ح): جنگلی گدھا، گورخر۔

کعط: کَعْطَلَ کَعْطَلَۃً: تیز دوڑنا۔ بیدہ انگڑائی لینے میں ہاتھ پھیلانا۔

کعك: الکَعْكُ واحد کَعْكَۃٌ ج کَعْکَاتٌ (ط): کیک (فارسیہ)

کعل: تَکَعَّلَ التمرُ ونحوُہٗ: کھجوروں وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھا ہوا ہونا۔ الکَعْلُ بخیل مالدار۔ ـــ والکُعَلُ: کالا پستہ قد مرد۔ المُکَعِّلُ: غصے سے پھولا ہوا۔

کعم: کَعَمَ ۔ کَعْمًا الوعاءَ: برتن کا منہ باندھنا۔ ـــ البعیرَ: اونٹ کو تھوتھنی لگانا۔ ـــ الخوفُ فلانًا: کو ہٹانا۔ ـــ ہ عندالعامۃ: دھکیلنے پر ہٹ جانا۔ الکِعْمُ ج کِعَامٌ: ہتھیار کا کیس وغیرہ۔ الکِعَامُ ج کُعُمٌ والکِعَامَۃُ: تھوتھنی جس سے اونٹ کے منہ کو باندھتے ہیں تاکہ کھا اور کاٹ نہ سکے۔ کُعُوْمُ الطَّرِیْقِ: راستہ کے دہانے۔ بَعِیْرٌ کَعِیْمٌ تھوتھنی چڑھایا ہوا اونٹ۔

کعن ا۔ اَکْعَنَ الرجُلُ بست ہونا، کی نشاط میں کمی ہونا۔

۲۔ تَکَعْنَشَ الطائرُ: پرندے کا جال میں پھنسنا۔ ـــ فلان فی الشیئِ: میں مستغرق ہونا۔

کعو: کَعَا یَکْعُوْ کَعْوًا: بزدل ہونا۔ کَعِیَ یَکْعٰی کَعْیًا عنہ: کوشش کے بعد سے عاجز آجانا (عامیہ) کَعّٰی غیرَہٗ: کو عاجز کر دینا (عامیہ) الکَاعِیُ (فا): شکست خوردہ۔ الاَکْعَاءُ: بزدل لوگ۔ الکَعْوَۃُ: جس کے ساتھ عاجز کیا جائے (عامیہ)۔

کغد: الکَاغِدُ والکَاغَدُ: کاغذ (فارسیہ) الکَاغِدِیُّ: کاغذ بیچنے والا۔

☜ کغم: کیلوغرام کا مخفف، بمعنی کلوگرام۔

کف ا۔ کَفَّ ـُـ کَفًّا و کِفَافَۃً الثوب: کپڑے پر گوٹ لگانا، حاشیہ لگانا، کنارے ترپنا۔ کَفَّ ـُـ کَفًّا الشیئَ: کو جمع کرنا، ـــ رجلَہٗ: پاؤں میں چیتھڑا لپیٹنا۔ ـــ ماءَ وجھِہٖ: کی آبرو بچانا اور سوال کرنے سے روکنا۔ ـــ القبیلۃ قبیلہ کے ایک گوشہ کو اختیار کرنا، ـ الاناءَ: برتن کو بہت بھرنا۔ ـ ہ عن الامر: کو سے باز رکھنا۔ ـ عن الامر سے باز رہنا۔ ـ بصرُہٗ: اندھا ہونا۔ ـ کُفُوْفًا ت النَّاقَۃُ اونٹنی کا بوڑھی ہونے کی وجہ سے چھوٹے دانت والی ہونا۔ کُفَّ بَصَرُہٗ: اندھا ہونا۔ تَکَفَّفَ الناسَ: لوگوں سے مانگنے کیلئے ہاتھ پھیلانا۔ ـــ الرجُلُ: چیز کو ہاتھ میں لینا یا مٹھی بھر کھانا مانگنا۔ یا بھوک دور کرنے کے جتنا مانگنا۔ ـــ دَمْعُہٗ: کے آنسو کا رکنا۔ ـــ عن الامر: کو چھوڑنا۔ تکَافَّ القومُ: ایک دوسرے کو روکنا۔ ـ عن الامر: سے باز رہنا۔ اِنکَفَّ: باز رہنا، ـ عن المکان: جگہ چھوڑنا۔ اِسْتَکَفَّ الشَعَرُ: بال بکثرت ہونا۔ ـــ الشیئَ: کو ہاتھ میں لینا۔ ـ الناسَ: مانگنے کیلئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ ـ عینَہٗ: دیکھنے کے لئے آنکھ پر ہاتھ کا سایہ کرنا۔ ـــ الناظرُ دیکھنے والے کا دھوپ سے بچنے والے کی طرح بھوؤں پر ہاتھ رکھنا۔ ـــ ت عینُہٗ: آنکھ کا ہاتھ کے نیچے سے دیکھنا۔ ـــ الشیئُ: گول ہونا۔ ـــ ت الحیَّۃُ: کنڈلی مارنا (چکی کی طرح)۔ ـــ بہ الناسُ: کا احاطہ کرنا۔ ـــ الناسُ حولَہ: کو گھیرے میں لے کر دیکھنا۔ ـــ فلانٌ بالصدقۃ: صدقہ مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ ـــ ہٗ عن الشیئ: کو سے رکنے کے لئے کہنا۔ الکَافُّ (فا) ج کَفَفَۃٌ رَجُلٌ کَافٌّ: اپنے نفس کو روکنے والا مرد۔ نَاقَۃٌ کَافٌّ: بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی اونٹنی۔ الکَافَّۃُ کَافٌّ کا مونث: جماعت کہا جاتا ہے۔ جَاءَ النَّاسُ کَافَّۃً: یعنی سب لوگ آئے۔ اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کی اضافت بھی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ حال ہونے کی بناء پر منصوب رہتا ہے)۔ بوڑھی اونٹنی۔ الکَفُّ (مص) ج اَکُفٌّ وکُفُوْفٌ و کُفٌّ (ع ا): ہاتھ یا ہتھیلی انگلیوں سمیت (مونث) نعمت۔ ـــ عند العروضیین: ساتویں حرف ساکن کا حذف کر دینا جیسے فَاعِلَاتُنْ کا نون گر گیا تو فَاعِلَاتُ ہوگیا۔ اور مَفَاعِیْلُنْ کا نون گرا تو مَفَاعِیْلُ ہوگیا۔ کَفُّ السَّبُعِ والکَلْبِ والذِئبِ ومَرْیَمَ و اٰدَمَ و غیرھا (ن) نباتات کی قسمیں ہیں۔ الکَفَّۃُ: کف کا اسم مرہ۔ ـــ کَفَّۃُ المِیْزَانِ: ترازو کا پلڑا، کہا جاتا ہے۔ لَقِیْتُہٗ کَفَّۃَ کَفَّۃَ بنی پر فتح۔ و کَفَّۃً لِکَفَّۃٍ و کَفَّۃً عَنْ کَفَّۃٍ یعنی میں اس سے رودررو ملا۔ الکُفَّۃُ ج کُفَفٌ و کِفَافٌ: گوٹ حاشیہ، چیز کا کنارا۔ من الشجر: درختوں کی انتہائی حد، ـــ من الناس: لوگوں کی جماعت، نزدیک جگہ والے۔ ـــ من اللیل: دن رات ملنے کی جگہ یا مشرق میں یا مغرب میں۔ ـ من الثوب: کپڑے کے اوپر کی دھاری جس میں چھور نہ ہو۔ ـــ من الغیم: بادل کا لمبا ٹکڑا۔ من اللثۃ: مسوڑھے کا لٹکا ہوا حصہ۔ من الدرع: زرہ کا دامن ـ من الرمل: ریت کا ٹیلہ جو لمبا اور گول ہو۔ کُفَّۃُ القَمِیْصِ: دامن کے اردگرد کی گوٹ۔ کُفَّۃُ الصَّائِدِ: شکاری کا جال۔ الکِفَّۃُ ج کِفَفٌ و کِفَافٌ: ہر گول چیز، گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔ من الدفّ: ڈھول کا ڈھانچہ۔ ـ من المیزان: ترازو کا پلڑا، کہا جاتا ہے۔ اَلذَّھَبُ بِالذَّھَبِ وَالکِفَّۃُ بِالکِفَّۃِ: یعنی برابر سرابر اور کہا جاتا ہے۔ جِئتُہٗ فِیْ کِفَّۃِ اللَّیْلِ: میں رات کے ابتدائی حصے میں اس کے پاس آیا۔ کِفَّۃُ الصَّائِدِ: شکاری کا جال۔ الکِفَّۃُ الجُنُوْبِیَّۃِ و الکِفَّۃُ الشَّمَالِیَّۃِ (فلك): دو ستاروں کے نام۔ الکَفَفُ: سوال کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ من الرزق: گزارہ کے لائق روزی۔ ـــ فی الوشم: گوندنے کے حلقے۔ الکِفَفُ: گڑھے جن میں چشمے ہوں۔ الکَفَافُ من الرزق: گزارہ کیلائق اور لوگوں سے بے نیاز کرنے والی روزی، کہا جاتا ہے۔ قُوْتُہٗ کَفَافٌ حَاجَتِہٖ: یعنی اس کا گزارہ بغیر کسی زیادتی کے اس کی حاجت کے مطابق ہے۔ کَفَافُ الشیئ: چیز کے مانند، ہم مثل کہا جاتا ہے۔ ھُوَ کَفَافُہٗ: وہ اس کا ہم مثل ہم قدر ہے، کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ لَحْمُہٗ کَفَافٌ لِاَدِیْمِہٖ: یعنی فلاں کے بدن کے گوشت سے اس کا چمڑا ابھرا ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے طَارَ البُرُوْقُ فِیْ کَفَافِ السَّحَابِ: یعنی بادل کے کناروں میں بجلی کوندی، اور کہا جاتا ہے۔ جِئتُہٗ فی کَفَافِ اللَّیْلِ: میں اس کے پاس رات کے ابتدائی حصہ میں آیا اور کہا جاتا ہے۔ دَعْنِیْ کَفَافِ: یعنی تو مجھے چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ الکِفَافُ من الشیئ: ج اَکِفَّۃٌ: گھیرا۔ ـــ من الثوب: کپڑے کی گوٹ۔ کِفَافُ السَّیْفِ: تلوار کی دھار، کِفَافُ السَّحَابِ: بادل کے کنارے، بادل کے نچلے حصے ہر وہ جو کسی چیز کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے وہ کفاف ہوتی ہے اس سے کِفَافُ الاُذُنِ: ہے الکَفُوْفُ من النوق: بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی اونٹنی۔ الکَفِیْفُ: اندھا۔ المُکَافَّۃُ: ایک دوسرے کو روکنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المَکْفُوفُ ج مَکَافِیفُ: اندھا۔ المُسْتَکِفُّ: گول۔ المُسْتَکِفَاتُ چشمے۔ اکٹھے اونٹ۔

۲۔ کَفْکَفَ ہُ عن کـذا کو سے پھیرنا اور روکنا۔ —— الدمعَ: آنسو بار بار پونچھنا۔ الرجلَ: قرض دار سے نرمی برتنا یا ایذا دینے والے کو اپنے سے روکنا۔ تکَفْکَفَ عنہ: سے پھرنا اور باز رہنا۔

ⓒ کَفَّ عـن: کچھ کرتے رہنے سے احتراز کرنا، کچھ کرتا رہنا ختم کر دینا۔ —— من: کو حد کے اندر رکھنا، قابو میں رکھنا، کو یکا یک روکنا۔ کَفَّفَ ہ: کپڑے کو گوٹ لگانا، کے کنارے ترپنا۔ تَکَفَّفَ: بھیک مانگنا۔ اِنْکَفَّ عـن: سے باز رہنا۔ اسْتَکَفَّ: بھیک مانگنا۔ —— ل حولِ: کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیر لینا، کو گھیرے میں لینا۔ کفّ (مونث) جمع کُفُوف و اَکُفّ: ہتھیلی، دستانہ، (جانور کا) پنجہ، تھپڑ، چپت، طمانچہ، ترازو کا پلڑا، مٹھی بھر، کاغذ کا دستہ، (چاکلیٹ کی) ٹیخ۔ الکف الجَذْمَاء: ستاروں کے جھرمٹ کا ایک ستارہ۔ وَضَعَ حیاته علی کفّه: اپنی زندگی کو خطرہ میں ڈالنا۔ اِسْتَدَرَّ الأَکُفَّ: بہت چندے (امداد) حاصل کرنا۔ کَفَّة و کِفَّة جمع کِفَف و کِفَاف: ہتھیلی، ترازو کا پلڑا۔ کَفَّة بارود: کارتوسوں کی تھیلی۔ کُفَّة جمع کُفَف: بارڈر، گوٹ، مغزی، سنجاف، سیون، کنارا۔ کِفَاف: کافی مقدار، روزی کے کافی ذرائع۔ کِفَاف: بارڈر، کنارا، گوٹ، مغزی، سنجاف۔ کِفَافَة: گوٹ لگانا، کنارے ترپنا، گوٹ، مغزی، سنجاف۔ کفیف و کفیف البصر: اندھا۔ کافّة: مجموعیت، اتمام، کلیت (اضافی حالت میں) سب، لوگ، عوام۔ کافّةً: سب بلا استثناء، ہر ایک سب ملا کر، کل، فی الجملہ، مجموعی طور پر، اکٹھا، سب مل کر۔ مَکْفُوف: اندھا۔

کفأ: ۱۔ کَفَأَ ـَ کَفْأً: پھرنا، شکست کھانا۔ —— الرجُلَ: کو دھتکارنا۔ —— عنِ القصد: میانہ روی سے تجاوز کرنا۔ و کَفَأَ و اِکْتَفَأَ الاناءَ: برتن کو الٹ دینا، اوندھا کر دینا۔ کَافَأَ فلانًا: کا مقابلہ کرنا۔ اَکْفَأَ اِکْفَاءً: جھکنا۔ —— الاناءَ: برتن کو الٹ دینا۔ —— الشاعرُ: بیت کے آخر کو روی کے بدلنے یا کسی اور طریقے سے خراب کر دینا۔ البیتَ: گھر پر پردہ لگانا۔ تکفّأ فی مشیته: لڑکھڑانا۔ فی مشیته: لڑکھڑانا۔ اِکْتَفَأَ الاناءَ: برتن کو جھکانا پلٹنا۔ —— الابلَ: اونٹوں کو لوٹ ڈال کر لے بھاگنا۔ اِنْکَفَأَ القومُ: متفرق ہونا۔ واپس ہونا، شکست کھانا۔ الی کذا: کی طرف جھکنا۔ —— اللونُ: متغیر ہونا۔ اِسْتَکْفَأْتُ فلانًا: میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے برتن کی چیز کو میرے برتن میں انڈیل دے۔ کِفَاءُ البیت ج اَکْفِئَة: خیمہ کے اوپر سے نیچے تک کا پردہ جو آخر میں لگایا جاتا ہے۔ الکَفِیُّ کہا جاتا ہے۔ هُوَ کَفِیُّ اللَّوْنِ یعنی اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ الاِکْفَاءُ عند الشعراء: حرف روی کو بدل بدل کر لانا مثلاً کہیں میم، کہیں دال کہیں نون اور یہ ممنوع ہے کہا جاتا ہے۔ رأیته مکتفئَ اللون و مُکْفَأَ اللون: میں نے اس کو متغیر اللون پایا۔

۲۔ کَافَأَ الرجُلَ علی ما کان منه: کو اس کے کام کا بدلہ دینا۔ —— فلانًا: کا مقابلہ کرنا، نظیر ہونا، کی برابری کرنا۔ بین الفارسین برمحه: ایک کے بعد دوسرے کو نیزہ مارنا۔ تَکَافَأَ القومُ: ایک دوسرے کے برابر ہونا۔ الکُفُءُ والکَفُءُ والکِفْءُ ج اَکْفَاءٌ و کِفَاءٌ: مثل و نظیر، کہا جاتا ہے۔ هٰذا کُفُوُهُ: یہ اس کا ہم مثل ہے۔ الکِفَاءُ مصدر کَافَأَ کہا جاتا ہے۔ الحَمْدُ لِلّٰهِ کِفَاءَ الوَاجِبِ: جتنی حمد واجب ہے اس کے برابر اللہ کے لئے حمد ثابت ہے۔ هٰذَا کِفَاءُهُ: یہ اس کے مثل ہے۔ لَاکِفَاءَ لَهُ: اس کی کوئی نظیر نہیں۔ الکَفَاءُ و الکَفَاءَةُ: برابری، مساوات۔ کَفَائَة جِسْمٍ اَوْقِیْمَتُهُ الاِتِحَادِیَة (ك): کسی جسم کی برابری یا اس کی وفاقی قیمت، اس کا قیاس ہیڈروجن کے ذرات کی تعداد سے کیا جاتا ہے جو اس جسم کے ذرہ سے متصل ہوں یا اس کی جگہ لیں۔ آج کل یہ نظریہ شدت سے تبدیل ہو چکا ہے۔ الکُفُوءُ والکَفُوءُ والکَفِیُّ والکَفِیْئَةُ مماثل / التَّکَافُؤُ عندالعرب: برابری تکَافُؤُ شَکْلَیْن مِسَاحَةً (او حُجْمًا) (ھ) قطعی مطابقت کے بغیر دو شکلوں کے رقبہ یا حجم کا یکساں ہونا، جیسے مربع و مستطیل جن کا رقبہ ایک میٹر مربع ہو۔

۳۔ کَافَأَ فلانًا: پر نظر رکھنا۔

۴۔ اَکْفَأَ اِکْفَاءً تِ الابلُ: اونٹنی کا بہت بچے دینا۔ اِسْتَکْفَأَ فلانًا ابلَهُ: سے ایک سال کے اونٹوں کی پیدائش مانگنا کہا جاتا ہے۔ اِسْتَکْفَأْتُهُ ابلَهُ فَاَکْفَأَنِیْهَا: میں نے اس سے اس کے اونٹوں کی ایک سال کی پیدائش کو مانگا تو اس نے مجھے دودھ، اون، بچے سب دے دیئے۔ الکَفْأَة و الکُفْأَة فی الابل: اونٹوں کی ایک سال کی پیدائش یا اس سے زائد کے ناغہ کے بعد کی پیدائش۔ مَنَحْتُهُ کَفْأَةَ غَنَمِیْ: یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب تم کسی کو ایک سال کیلئے اپنی بکریوں کا دودھ صوف بچے سب دے دو اور سال کے اختتام پر بکریاں وہ تمہیں [illegible]

الارض: سال بھر کی کھیتی۔ مـن النخل: کھجور کے درخت کی ایک سال کی پیداوار۔

۵۔ کِفْءُ الوادی: اندرون وادی۔ الکَفِیُّ: اندرون وادی۔

ⓒ کَفَأَ ـَ کَفْأً ہ کو الٹ دینا، اوندھا کرنا، —— من: سے دور ہونا، ایک طرف ہونا، ہٹنا۔ کَافَأَ ہ: کو انعام دینا۔ —— ہ ب کی سے تلافی کرنا، کا سے معاوضہ دینا۔ —— ہ: کے مشابہ، مماثل، جیسا، جتنا ہونا، کے برابر ہونا، کا ہم مقدار ہونا، کے حسب حال ہونا، کے مناسب ہونا، کے معیار پر پورا اترنا، کے مقابلہ کا ہونا۔ اَکْفَأَ ہ کو الٹ دینا، اوندھا کر دینا۔ تَکَافَأَ: برابر ہونا، ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہونا، میل کھاتا ہوا ہونا۔ اِنْکَفَأَ: ایک طرف کیا جانا، دور کیا جانا، تبدیل ہونا، (رنگ کا) پھیکا پڑ جانا، پیچھے مڑنا، پسپا ہونا، ٹوٹ جانا، الٹ جانا، اوندھا ہونا، گر جانا، الٹ کر گرنا، ڈگمگا کر گرنا۔ کَفْء و کِفْء و کُفْء جمع اَکْفَاء و کِفَاء: برابر، یکساں، ہم رنگ، ہم شکل، مشابہ، —— ل: کے لئے مناسب، موزوں، کافی، کے برابر، کا جوڑ۔ —— مستند، سند یافتہ، اہل، قابل، لائق، مجاز، صاحب اختیار، کار گزار۔ کُفُوء و کُفُؤل: کے برابر کا، کی ٹکر کا، کا ہم رتبہ، ہم پلہ، سے مقابلہ کئے جانے کے قابل۔ کِفَاء ہم قیمت (چیز) کَفَاء: برابری، موزونیت، کفایت، مناسبت، کافی ہونا۔ کَفَاءَة: برابری، موزونیت، مناسبت، کافی ہونا، مقابلہ کئے جانے کی قابلیت، قابلیت، صلاحیت، استعداد، جمع کَفَاءات: علمیت، اہلیت، استعداد، امکانات۔ مُکَافَأَة جمع مکافآت: بدلہ، تلافی، معاوضہ، اجرت، ضمانت، ہرجانہ، تاوان، نقصان وغیرہ سے حفاظت، انعام، وظیفہ۔ تَکَافُؤ: باہمی مطابقت، مماثلت، یکسانی، ہم قدری، برابری، مساوات، ہم رنگی، ہم نوعی، ہم جنسی، یکسانیت۔ اِنکفاء: پیچھے ہٹنا، پسپائی۔ مُکَافِئ: برابر، مانند، ایک ہی قسم کا، ہم قسم، متجانس، مماثل، متساوی، مناسب، حسب حال، ہم قیمت، برابر، مساوی۔

کفت: کَفَتَ ـِ کَفْتًا الشیئَ: کو قبض کرنا۔ —— الشیئَ الی نفسه: کو اپنے ساتھ ملانا۔ —— الشیئُ: الٹ جانا۔ —— ہ: کو پھیر دینا۔ عوام کہتے ہیں کَفَتَ الشیئَ: کو جلدی سے انڈیلنا۔ فلانٌ ذیله: دامن سمیٹنا۔ —— ہُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو وفات دینا، کہا جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اکْفِتْهُ اِلَیْكَ: اے اللہ اس کو موت دے۔ کَفَتَ کَفْتًا و کِفَاتًا و کَفِیْتًا الطائرُ وغیرُهُ: پرندے وغیرہ کا تیز اڑنا، دوڑنا اور سمٹنا۔ کَفَّتَ الشیئَ: کو

martat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

قبض کرنا۔۔ الشیئَ الی نفسہ: کو اپنے ساتھ ملانا۔ ۔ فلانٌ ذیلہٗ: دامن سمیٹنا۔ کَافَتَ مُکَافَتَۃً و کِفَاتًا الرجُلَ: سے دوڑنے میں سبقت لے جانا۔ تَکَفَّتَ الثوبُ: کپڑے کا سمٹنا۔۔ الطائرُ و غیرُہٗ: پرندہ کا تیز اڑنا یا دوڑنا اور سمٹنا۔۔۔۔ فی مسیرہ: دوڑنا۔ اِنْکَفَتَ: سکڑنا، پھرنا۔۔ الفرسُ: گھوڑے کا لاغر ہونا۔ اِکْتَفَتَ المالَ: سب لے لینا۔ الکَفْتُ (مص): موت، الٹ پلٹ ہونا، چھوٹی ہنڈیا۔۔ فی عدو ذی الحافر: تیزی سے ہاتھ میں قبضہ کر لینا کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَفْتٌ: دبلا پتلا ہلکا پھلکا مرد، اور کہا جاتا ہے۔ خُبْزٌ کَفْتٌ: پتلی اور ہلکی روٹی۔ الکِفْتُ: چھوٹی ہنڈیا۔ الکُفْتُ و الکُفْتَۃُ من الخیل: بہت اچھلنے کودنے والا گھوڑا جو سوار نہ ہونے دے۔ الکُفْتَۃُ (ط): کوفتہ، سیخ کباب۔ الکِفَاتُ (مص): چیز جمع کرنے کی جگہ، جمع شدہ چیز، کہا جاتا ہے۔ مَاتَ کِفَاتًا: اچانک مرجانا۔ کِفَاتُ الارْضِ: زمین کی سطح زندہ لوگوں کے لئے اور زمین کا باطن مردوں کے لئے۔ الکَفَّاتُ: فعال کے وزن پر اسم مبالغہ (ح) شیر۔ الکَفِیتُ (مص): توشہ دان جس برتن میں کھانا رکھا جائے، وہ شخص جو تم سے آگے بڑھ جائے۔۔ من الرجال: ہلکا پھلکا تیز مرد۔ عَدْوٌ کَفِیتٌ: تیز دوڑ۔ المُکْفِتُ: دو زرہوں کا پہننے والا جن کے درمیان میں کپڑا ہو، کہا جاتا ہے۔ مَاتَ مُکَافَتَۃً: اچانک مر گیا۔

☆ کَفَتَ ۔ کَفْتًا ہ من: کو سے روکنا، سے باز رکھنا۔ کَفَّتَ ہ ب: پر کا پتر چڑھانا، پر کا ملمع کرنا۔ ہ: پر منبت کاری کرنا، پر پچی کاری کرنا، جڑاؤ کام کرنا، مرقع کام کرنا۔ کِفت: پکانے کا برتن، ہانڈی۔ کُفْتَۃ: کوفتے، بڑے گوشت کے برگر۔ سَمَك کفتہ: تلی ہوئی مچھلی کی ٹکیاں، کفتۃ بطاطس: آلو اور قیمہ کے پکوڑے۔ تکفیت: پچی کاری کرنا۔ جڑاؤ کام، پچی کاری، جڑاؤ کام، منبت کاری، مرقع کام، پتر کاری کرنا، پتر کاری، دھات چڑھانا۔ مُکَفَّت: پچی کاری کیا ہوا، پتر کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا، پتر چڑھایا ہوا۔

کفح: ا۔ کَفَحَ ۔ کَفْحًا العدوَّ: کے آمنے سامنے ہونا، دشمن کے رو در رو ہونا۔ الشیئَ: کا سرپوش اتارنا۔۔ ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ لِمجام الدابَّۃِ: چوپایہ کو ٹھہرانے کے لئے لگام کھینچنا۔ کَفِحَ ۔ کَفْحًا عنہُ: سے شرمندہ ہونا، میں بزدل ہونا۔ کَافَحَ القومُ اعداءَ ھُمْ: بغیر ڈھال وغیرہ کے دشمن کے مقابلے پر آجانا، کہا جاتا ہے۔ ھُوَ یُکَافِحُ الاُمُوْرَ: وہ امور کو خود انجام دیتا ہے۔۔۔۔ عنہُ: کا دفاع کرنا۔ اَکْفَحَ الدابَّۃَ: چوپایہ کو ٹھہرانے کیلئے لگام کھینچنا۔ فلانًا۔ عن نفسہ: کو خود سے ہٹانا، دفع کرنا۔ تَکَافَحَ القومُ: آمنے سامنے مقابلہ کرنا۔۔ تِ الامواجُ: موجوں کا ٹکرانا۔۔۔ تِ الکِباشُ: مینڈھوں کا ایک دوسرے کو سینگ مارنا۔ الکِفَاحُ (مص): کہا جاتا ہے۔ لَقِیتُہٗ کِفَاحًا: میں نے اس سے آمنے سامنے ملاقات کی۔ الکَفِیحُ: نظیر، کفو، اچانک آنے والا مہمان، شوہر۔

۲۔ الکُفْحَۃُ: چھوٹی سی جماعت۔ الاَکْفَحُ: سیاہ۔

☆ کَفَحَ ۔ کَفْحًا ہ: سے روبرو ملنا، کے روبرو ہونا، سے کشادہ دل سے ملنا۔ کَافَحَ ہ: کے روبرو ہونا، سے روبرو ملنا۔ سے کشادہ دلی سے ملنا۔۔ ہ/ ھ: سے لڑنا، کا مقابلہ کرنا۔۔ ہ: پر غالب ہونے کی جدوجہد کرنا، کے خلاف لڑنا۔ عن: کا دفاع کرنا۔ کیلئے لڑنا۔ کَافَحَ اُمورَہٗ: اپنے معاملات کا ذاتی طور پر انتظام کرنا۔ کِفاح و مکافحۃ: مخالفت، لڑائی، جنگ، جدوجہد، جھگڑا۔

کفخ: کَفَخَ ۔ کَفْخًا ہٗ: کو طمانچہ مارنا۔ ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ الکَفْخَۃُ: جمع شدہ سفید مکھن۔ رَجُلٌ مِکْفَخٌ و عُمُودٌ مِکْفَخٌ: مضبوط آدمی اور ستون۔

کفر: ا۔ کَفَرَ ۔ کَفْرًا و کُفُورًا الشیئَ: کو چھپانا، ڈھانکنا کہا جاتا ہے۔ کَفَرَ دِرْعَہٗ بِثَوْبِہٖ: اس نے اپنی زرہ کو اپنے کپڑے سے چھپایا۔۔۔ اللیلُ الشیئَ و علی الشیئِ: کو ڈھانکنا۔۔ الجھلُ علیٰ علم فلان: کے علم پر جہالت کا غالب آنا۔ کَفَرَ ۔ کَفْرًا و کُفْرًا و کُفُوْرًا و کُفْرَانًا: کفر کرنا۔۔۔ بالخالق: کی نفی کرنا۔۔۔ کُفْرًا و کُفُوْرًا و کُفْرَانًا نِعَمَ اللّٰہ و بِنِعَمِ اللّٰہِ: اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا بکذا: سے بیزار ہونا۔ کَفَّرَ الشیئَ: کو چھپانا۔ الرجُلَ: کو کفر پر برانگیختہ کرنا، کی کفر کی طرف نسبت کرنا۔ اللّٰہُ لَہُ الذنْبَ: اللہ کا اس کا گناہ معاف کرنا، گناہ مٹانا۔۔۔ عن یمینہ او اثمہ: کی قسم یا گناہ کا کفارہ ادا کرنا۔ کَافَرَ مُکَافَرَۃً فلانًا حقَّہٗ: کے حق کا انکار کرنا۔ اَکْفَرَ: اطاعت اور ایمان کے بعد گناہ اور کفر اختیار کرنا۔ الرجُلَ: کو کافر کہنا، کفر کی طرف منسوب کرنا، کافر بنانا، کفر کرنے پر مجبور کرنا۔ تَکَفَّرَ المحارب فی سلاحہ: جنگجو کا زرہ پہننا کہا جاتا ہے۔ تَکَفَّرْ بِثَوْبِكَ: اپنے کپڑے پہن لے۔ اِکْتَفَرَ: دیہات میں رہنا۔ الکَفْرُ (مص) کُفُوْرٌ: دور کی زمین، دیہات، سریانی زبان میں یہ کَفْرا ہے جس کا معنی ہے، دیہات، کھیتی، کھیت، مٹی کیونکہ یہ اپنی نچلی چیز کو چھپا دیتی ہے، قبر۔۔ و الکِفْرُ و الکَفْرَۃُ: رات کی تاریکی، سیاہی۔ الکُفْرُ: ایمان کی ضد۔ کفر۔ الکَفْرُ و الکُفَرّیٰ و الکُفُرّیٰ و الکِفِرّیٰ: کھجور کے شگوفے کا غلاف۔ الکُفْرَانُ: منعم کی نعمت کی ناشکری اور انکار، ایمان کی ضد۔ الکَافِرُ (فا) ج کَافِرُوْنَ و کَفَرَۃٌ و کُفَّارٌ و کِفَارٌ: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا (کُفَّارٌ اس کافر کی جمع میں اکثر استعمال ہوتا ہے جو مومن کی ضد ہے اور کَفَرَۃٌ کا استعمال اکثر اس کافر کی جمع میں ہے جو بمعنی ناشکر گزار ہے) تاریک رات، سمندر، بڑی وادی، دور کی زمین، بڑا دریا، کالا بادل، تاریکی، زرہ، وہ شخص جس نے زرہ کو اپنے کپڑوں سے چھپا رکھا ہو، ہتھیار بند، کھجور کے شگوفے کا غلاف، کاشتکار، نباتات من الخیل: کالا گھوڑا۔ الکَافِرَۃُ ج کَافِرَاتٌ و کَوَافِرُ: کافر کی مونث۔ الکَوَافِرُ: شراب کے مٹکے۔ الکَفُوْرُ ج کُفُرٌ بمعنی کافر، (اس کی جمع سالم نہیں آتی) الکَفَّارُ: بروزن فعال اسم مبالغہ۔ رَجُلٌ کَفَّار: اللہ کا نعمتوں کا ناشکرا۔ الکَفَّارَۃُ الکَفَّارُ کا مونث: گناہ کا کفارہ، صدقہ یا روزہ جو کفارہ میں ادا کیا جائے۔ الکَافُوْرُ ج کَوَافِیْرُ و کَوَافِر: کھجور کا شگوفہ، یا کھجور کے شگوفے کا غلاف، خوشہ انگور نکلنے کی جگہ (ن) جنوبی چین کا ایک پودا جس کے پتے کبھی خشک نہیں ہوتے اور پھول زردی مائل سفید، کافور اسی سے نکالا جاتا ہے۔ (ك): عطری مواد جو کافور کے درخت سے نکلتا ہے اور دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ المُکَفَّرُ (مفع): وہ احسان کرنے والا جس کی ناشکری کی گئی ہو، لوہے میں بندھا ہوا۔ طَائِرٌ مُکَفَّرٌ: پروں میں چھپا ہوا پرندہ۔ المُکَفِّرُ و المُتَکَفِّرُ: ہتھیار بند۔

۲۔ کَفَّرَ لہٗ: تعظیماً کسی کے سامنے سینہ پر ہاتھ رکھنا اور سر جھکانا۔ کُفِّرَ لِلملك: کو تاج پہنایا جانا کہ جس کے دیکھنے سے تعظیم کرنا لازم ہو۔ الکُفْرُ: فارسیوں کا اپنے بادشاہ کی تعظیم کرنا۔

۳۔ الکَافِرُ: ہموار زمین۔ الکَفْرُ: چھوٹی لاٹھی۔ الکَفَرُ واحد کَفَرَۃٌ: پہاڑ کی گھاٹیاں۔ الکَفْرُ من الجبال: بڑا پہاڑ۔

☆ کَفَرَ ۔ کُفْرًا و کُفْرَانًا و کُفُوْرًا: بے دین ہونا، لامذہب ہونا، ملحد ہونا۔ باللّٰہ: اللہ پر ایمان نہ لانا، یقین نہ کرنا، اللہ کو نہ ماننا۔۔۔ خدا کی شان میں گستاخی کرنا، لامذہب ہو جانا، بے دین ہو جانا۔ ھ / ب: کا ناشکرا ہونا۔ کَفَّرَ ہ: کو چھپانا، ڈھکنا۔ عن: کا کفارہ ادا کرنا۔ عن ب: کی سے تلافی کرنا۔۔۔۔ عن ھ: کو کی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

معافی دینا، کے (گناہ) بخش دینا۔ ۔ ل / عن: کچھ کسی کو معاف کر دینا، کی کو معافی دینا۔ ۔ ہ: کو بے دین، لامذہب، ملحد بنانا، کو کفر پر ورغلانا، کو کفر سے متہم کرنا، پر کفر کا الزام لگانا۔ اَکْفَرَہ: کو کافر بنانا کو کافر کہنا، کو کفر سے متہم کرنا۔ کَفْر جمع کُفُور: چھوٹا گاؤں، کھیڑا۔ کُفْر و کُفْران: کفر۔ کُفر باللّٰہ: کفر، انکار خدا، الحاد، مذمت دین، تحقیر دین، خدا کی بے ادبی۔ کُفران بالنعمة: کفران نعمت، نعمت کی ناشکری۔ کَفَّار: کافر، غیر مسلم۔ کَفَّارَة عن: گناہ سے توبہ، گناہ کا کفارہ، گناہ کی تلافی، صدقہ، بدلہ۔ تَکْفِیر عن: بمعنی بالا۔ تکفیر: کفر پر ورغلانا، کفر کا الزام۔ کَافِر جمع کافِرون و کُفَّار و کَفَرَة و کِفار: لامذہب، کافر، غیر مسلم، بے دین، دہریہ، ملحد، ناشکرا۔ کافر بالنعمة: نعمت کا ناشکرا۔

کفس: کَفِسَ ۔ کَفَسًا تْ رِجْلُ الصبیّ: بچے کے پاؤں کا ٹیڑھا ہونا۔ صفت اَکْفَسُ مونث کَفْسَاءُ ج کُفْسٌ۔ اِنْکَفَسَ تْ رِجْلُ الصبیّ: بچہ کے پاؤں کا ٹیڑھا ہونا۔ ۔ الرجُلُ: مرد کا دوہرا ہونا۔ الکِفَاسُ: بچے کے بدن پر باندھنے کا کپڑا، بدن سے ملے ہوئے کپڑے سے اوپر کا کپڑا۔

○ کَفَسَ ۔ کَفْسًا و اِنکَسَف: ٹیڑھے پاؤں والا ہونا۔ اَکْفَس: مونث کَفْسَاء جمع کُفْس: ٹیڑھے پاؤں والا

○ کَفْکَف ہ: آنسو روکنا۔

کفل: کَفَلَ ۔ کَفْلًا و کَفَالَةً فلانًا: کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہونا ۔ الشیئَ الیه: کو سے ملانا ۔ فی صیامه: لگاتار روزے رکھنا۔ کَفَلَ ۔ و کَفِلَ ۔ و کَفُلَ ۔ کَفْلًا و کُفُولًا الرجُلَ وبالرجل والمالَ وبالمال: کا ضامن ہونا، کہا جاتا ہے۔ کَفَلَ عَنْهُ بِالْمَالِ لِغَرِیْمِهٖ: اس نے قرض خواہ کے لئے مال کی ذمہ داری لی۔ کَفَّلَ ہٗ: کے نان و نفقہ وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔ القاضی الخصمَ: قاضی کا مخالف سے ضامن لینا ۔ ہٗ ایاہُ: کو کا ضامن بنانا۔ کَافَلَ مُکَافَلَةً ہٗ: سے معاہدہ کرنا۔ اَکْفَلَ ہٗ اِیَّاہُ: کو کا ضامن بنانا ۔ زید عمروا: زید کا عمر کے مال کا ضامن ہونا۔ تَکَفَّلَ البعیرَ: اونٹ کے کوہان پر گول زین رکھ کر سوار ہونا۔ له بکذا: کا کیلئے ضامن ہونا، کہا جاتا ہے۔ تَکَافَلَ القومُ: بعض بعض کا ضامن ہونا۔ تَکَفَّلَ بِالْمَالِ: کو اپنے ذمہ کر لیا۔ اِکْتَفَلَ البعیرَ: اونٹ کے کوہان پر گول زین رکھ کر سوار ہونا۔ ۔ بفلان: کو کسی جانور پر اپنے پیچھے سوار کرنا ۔ بالشیئ: کو پیچھے کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِکْتَفَلُوْا بِالْجَبَلِ: یعنی پہاڑ سے گزر گئے اور اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ الکَافِلُ (فا) ج کُفَّلٌ: ضامن، یتیم کا متولی، عیالداری کرنے والا، لگاتار روزے رکھنے والا، کہا جاتا ہے۔ بَاتَ فُلَانٌ کَافِلًا: فلاں نے اس حالت میں رات گزاری کہ نہ تو دن کو کھانا کھایا نہ رات کو۔ الکِفْلُ ج اَکْفَالٌ: وہ چیز جو سوار کی اس کے پیچھے سے حفاظت کرے، ضمانت، بیل کی گردن پر جوئے کے نیچے کا چیتھڑا، چیتھڑے وغیرہ سے ایک گول سی چیز بناتے ہیں اور اس کو اونٹ کے کوہان پر رکھتے ہیں تاکہ بیٹھنے میں آسان رہے، پیچھے سوار ہونے والا، اون جو پہلے اون کے گرنے کے بعد نکلے، وہ شخص جو میدان جنگ میں آخر میں رہے اور بھاگنے کے لائے تیار کھڑا ہو، وہ شخص سواری پر برقرار نہ رہ سکے، حصہ، نصیب، نظیر، مثل، دو چند ثواب یا گناہ، وہ شخص جو اپنی جان و مال کو دوسرے کے ذمے ڈال دے۔ الکَفَلُ من الدابة: چوپایہ کا چوتڑ یا سرین کا پچھلا حصہ۔ الکَفَالَةُ ج کَفَالَاتٌ: ضمانت (کَفَلَه سے اسم ہے)۔ الکُفُوْلَةُ: اسم ہے کَفُلَ کا اور کفل اس کو کہتے ہیں جو شخص گھوڑے پر جم کر نہ بیٹھ سکے۔ الکَفِیْلُ ج کُفَلَاءُ: ضامن، ہم مثل، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَفِیْلٌ وَاِمْرَاَةٌ کَفِیْلٌ وقَوْمٌ کَفِیْلٌ۔

○ کَفَلَ ۔ کَفْلًا و کَفَالَةً ہ: کو کھلانا، کا بوجھ اٹھانا، سہارا ہونا، کے گھر کا خرچ چلانا ۔ عائلة: کنبہ کا خرچ چلانا۔ کَفَلَ ۔ و کَفِلَ ۔ و کَفُلَ ۔ کَفْلًا و کُفُولًا و کَفَالَةً ب: کا ذمہ لینا، کا ذمہ دار ہونا، کے لئے جواب دہ ہونا، کا ضامن ہونا، کفیل ہونا ۔ ہ: کی ذمہ داری اپنے سر لینا، کی ضمانت دینا، کا قانونی سرپرست ہونا ۔ ہ: کی ذمہ داری لینا، کی ضمانت دینا ۔ ہ ل: کی کو ضمانت دینا۔ کَفَّلَ ہ: کو کھلانا، کا بوجھ اٹھانا، کا سہارا ہونا، کے گھر کا خرچ چلانا، کو بطور ضمانت، ذمے دار، ضامن یا کفیل تسلیم کرنا، کو بطور ضامن نامزد کرنا، سے ضمانت یا ضمانت دینے کی درخواست کرنا، کو بطور ضمانت و کفالت مقرر کرنا۔ کَافَلَ ہ: سے معاہدہ کرنا۔ اَکْفَلَ ہ: کو بطور ضامن مقرر کرنا، سے ضمانت دلوانا۔ تَکَفَّلَ ل ب: کی کے لئے ضمانت ہونا، کا کیلئے ذمہ دار یا جواب دہ ہونا یا ہو جانا، کا کیلئے ضامن یا کفیل ہونا، کو کی ضمانت دینا، سے خود کو کچھ کرنے کے لئے پابند کرنا، سے کچھ کرنے کا عہد کرنا ۔ ب: کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا۔ تکَفَّلَ [illegible] کا ذمہ دار ہونا [illegible] ضمانت دینا۔ کَفْل: ضمانت نامہ، کفالت نامہ۔ کَفَل جمع کَفال و کُفُول: پڑا، پٹھا، سرین، چوتڑ، گھوڑے کا پٹھا۔ کَفَالَة: ضمانت، کفالت۔ کفالة مالية: مالی ضمانت، مچلکہ، زرضمانت۔ کفالة بالنفس: کسی شخص کی عدالت میں حاضری کا مچلکہ۔ فی کفالةِ فلان: کے زیر حفاظت، سرپرستی یا اتالیقی، کے زیر حراست، کی زیر نگرانی۔ کَفِیل جمع کُفَلاء: ذمہ دار، جوابدہ، ضامن ۔ ب: کا ضامن، کی ذمہ داری لینے والا ۔: محافظ، نگہبان، قانونی سرپرست۔ کفیل بالنفس: کسی شخص کی عدالت میں حاضری کا ضامن۔ تَکَافُل: باہمی یا مشترکہ ذمہ داری، استحکام، باہمی معاہدہ۔ کَافِل: روٹی کمانے والا، مدد کرنے والا، سہارا، گھر کا خرچ چلانے والا، ضامن، ضمانتی، دوسرے کی طرف قرض کی ادائیگی کا ضامن، دوسرے شخص کا سرکاری طور پر ذمہ دار ہونے کا اقرار کرنے والا۔ محافظ، قانونی سرپرست۔ مَکْفُولٌ (بہ): ضمانت دیا گیا، جس کی ذمہ داری لی گئی ہو، گردش میں کافی بینک نوٹ۔

کفن: ا کَفَنَ ۔ کَفْنًا الجمرَ بالرماد: چنگاری کو راکھ میں دبا دینا ۔ الخبزةَ فی الملَّة: بھوبھل میں روٹی چھپانا۔ و کَفَّنَ المیتَ: میت کو کفن دینا۔ تَکَفَّنَ بکذا: کے ذریعے چھپنا۔ الکَفَنُ ج اَکْفَانٌ: کفن، جو میت کو پہنایا جاتا ہے۔

۲ کَفَنَ ۔ کَفْنًا الصوفَ: اون کاتنا۔

۳ طَعَامٌ کَفْنٌ: بے نمک کھانا۔ الکَفْنَةُ (ن): ایک درخت کا نام ہے اور بقول بعض ایک گھاس ہے جو زمین پر بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ الکُفْنَةُ: عمدہ زمین جو ہر چیز کو اگائے۔ قَوْمٌ مُکَفَّنُوْنَ: ایسے لوگ جن کے پاس نمک نہ ہو۔

کفه: الکَافِهُ: فوج کا سردار۔

۲ اِکْفَهَرَّ اِکْفِهرَارًا اللیلُ: رات کا سخت تاریک ہونا۔ ۔ السحابُ: بادل گھٹا ٹوپ ہونا ۔ النجمُ: ستارہ کا سخت تاریکی میں چمکنا ۔ الرجُلُ: تیوری چڑھانا۔ المُکْفَهِرُّ (فا): ہرتہ بتہ چیز، سخت اور بلند پہاڑ، کم گوشت سخت اور بے حیا چہرہ، کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ مُکْفَهِرُّ اللَّوْنِ: یعنی فلاں کا رنگ تیرگی کی طرف مائل ہے۔ او فُلَانٌ مُکْفَهِرٌّ: یعنی فلاں ترش رو ہے۔

○ اِکْفِهرار: تاریکی، اندھیرا، شام کا دھندلکا، جھٹ پٹا، ظلمت، تیرگی، دھندلاپن۔ مُکْفَهِر: تاریک، بے نور، دھندلا، پھیکا، سیاہی مائل، ابر آلود، بادلوں سے گھرا ہوا، افسردہ دل، اداس، غمگین۔

کفو: الکُفُوُ والکُفی: مثل، نظیر۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

marfat.com

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

كفي ١۔ كَفَى يَكْفِي كِفَايَةً الشيئُ کافی ہونا۔ صفت كَافٍ ۔ الشيئُ فلاناً کسی چیز پر قناعت کرنا اور دوسرے سے مستغنی ہونا۔ ۔ فلانا مؤونته کہا جاتا ہے: كَفَيْتُهُ شَرَّ عَدُوِّه: یعنی میں نے اس کو دشمن کے شر سے بچا دیا۔ اور كَفَى کے فاعل پر باء کی زیادتی ہوتی ہے، جیسے كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا: یعنی اللہ تعالیٰ کی شہادت غیر سے مستغنی کر دیتی ہے یہاں اسم جلالت (اللہ) فاعلیت کی بناء پر مرفوع ہے اور شہیداً تمیز ہے۔ كَافَى كِفَاءً او مُكَافَاةً الرجُل: کیلئے کافی ہونا کو بدلہ دینا۔ اِكْتَفَى بكذا: پر قناعت کرنا، سے مستغنی ہونا۔ اِسْتَكْفَى الرجُل الشيئَ: سے کافی چیز مانگنا، تم کہتے ہو۔ اِسْتَكْفَيْتُهُ الأَمْرَ فَكَفَانِيهِ: میں نے درخواست کی کہ وہ مجھے اس کام کی زحمت سے بچائے تو اس نے مجھے وہ کام کرنے سے بے نیاز کر دیا۔ الكَافِي: جو تمہاری ضرورت کو پورا کر دے اور تمہیں غیر سے مستغنی کر دے، کہا جاتا ہے۔ هذا ارجل كافيك من رجل ورجلان كافياك من رجلين ورجال كافوك من رجال: یہ مرد تمہارے لئے دوسرے مرد سے کافی ہے اور اسی قیاس پر تثنیہ اور جمع کا ترجمہ کر لیں۔ اصل یہ ہے رجُل كافٍ يكفيك من رجل آخر (تمہیں ایک مرد دوسرے مرد سے کافی ہے) الكِفَايَة: (مص) جو کافی ہو اور غیر سے مستغنی کر دے۔ الكَفْيُ والكِفْيُ والكُفْيُ ج اَكْفَاءٌ: وہ چیز جس سے گزارہ ہو جائے، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ كَفْيُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد اس مرد سے تمہارے لئے کافی ہے، اس میں مفرد، تثنیہ، جمع اور مونث و مذکر سب برابر ہیں الكَفْيَة ج كُفًى: گزارہ، جو تمہاری زندگی گزارنے کے لائق ہو۔ الكَفِيُّ: جو تمہارے لئے کافی ہو اور تجھے غیر سے بے نیاز کر دے۔ كَفِيُّ الرَّجُلِ: مرد کا قائمقام۔ المُكَافاة (مص): احسان کا احسان سے یا اس سے زیادہ سے مقابلہ، کہا جاتا ہے۔ رَجَوْتُ مُكَافَاتَكَ: میں نے تمہارے کافی ہونے کی امید کی۔

٢۔ تكفى النباتُ: نباتات کا طویل ہونا۔ الكَفِيُّ: بارش۔

٣۔ الكِفْيُ جمع اَكْفَاء: اندرونِ وادی۔

○ كَفَى ـِ كِفَايَةً ہ: کیلئے کافی ہونا، کو کفایت کرنا۔ ۔ ہ: کو کسی سے محفوظ کرنا، کی سے حمایت کرنا۔ ۔ ہ ھ کو کسی چیز سے محفوظ کرنا۔ ۔ ہ ھ کو کسی مصیبت وغیرہ سے بچانا۔ وَكَفَى: یہ کافی ہے۔ كفى الله عنك: اللہ تمہاری کمی پوری کرے۔ كفى بالله وكيلا: اللہ بہترین محافظ ہے۔ كفى حُزْنًا ان: یہ بہت افسوسناک ہے کہ كَفَاهُ مُؤْنَةَ كذا: کو کی زحمت سے بچانا۔ كَافَى ہ: کیلئے کافی ہونا۔ ۔ ہ ب: کو سے بدلہ دینا، کو سے جزا دینا، صلہ دینا، انعام دینا، معاوضہ دینا۔ اِكْتَفَى ب: پر رضامند ہونا، آسودہ خاطر ہونا، مطمئن ہونا۔ كِفَايَة: کافی مقدار، درجہ، حد وغیرہ، کافی ہونا، کفایت، قابلیت، موزونیت، مہارت، استعداد، صلاحیت، کارگزاری۔ بالكِفَايَة: کافی طور پر، بخوبی، کافی۔ كفاية القتال: لڑنے کی قوت۔ عدم الكفاية الجنسية: جنسی کمزوری، نامردی۔ كَفِي: کافی، بہت مكافاة: انعام، فرحت، تسکین۔ اِكتفاء: خوشی، حالت اطمینان، اطمینان دلجمعی، قناعت كَافٍ ج كُفَاة: کافی، بہت، موزوں، مناسب، قابل، مستند، ماہر، ماہر، ہنرمند، آزمودہ کار، سلیقہ مند، ہوشیار، اہل، صاحب اختیار، لائق۔ مُكْتَفٍ: صابر، قانع، مطمئن، راضی، صابر شاکر۔

ككو: الكاكاو: (ن) چوڑے پتوں چھوٹے پھولوں اور بڑے پھلوں والا استوائی امریکا کا ایک درخت جس کے بیج سے کاکاو نکالا جاتا ہے جو چاکلیٹ بنانے کیلئے بنیادی مادہ سمجھا جاتا ہے۔

ككي: الكاكي: اسے جاپانی مشمش بھی کہتے ہیں (ن) یہ ایک چینی پودا ہے اس کی بلندی دس میٹر تک ہو جاتی ہے اس کے پھل رنگ میں یا تو نارنگی زرد ہوتے ہیں یا پھر چمکدار سرخ۔

كل ١۔ كَلَّ ـِ كَلًّا و كِلَّةً و كَلَالًا و كُلُولًا و كَلَالَةً و كُلُولَةً: تھکنا صفت كَالٌّ ۔ السيفُ وغيرُهُ تلوار وغیرہ کا کند ہونا۔ صفت كَلٌّ و كَلِيلٌ۔ ۔ اللسانُ او البصرُ: زبان یا نگاہ کا اچھی طرح سے کام نہ دینا۔ كَلَّلَ السيفُ: تلوار کا کند ہونا۔ ۔ الرجُل: اپنے اہل وعیال کو ضائع ہونے کے لئے چھوڑ کر چلا جانا ۔ عن الامر: سے بزدل ہو کر رکنا۔ اَكَلَّ ۔ البكاءُ بَصَرَهُ: آہ و بکا کا نگاہ کو مدہم کر دینا۔ ۔ البعيرَ: اونٹ کو تھکا دینا۔ ۔ الرجُل: تھکے ہوئے اونٹ والا ہونا۔ اِنْكَلَّ السيفُ: تلوار کا کند ہونا۔ الكَلّ (مص): اس کا اطلاق واحد جمع سب پر ہوتا ہے اور بعض مذکر و مونث کی جمع كلول کہتے ہیں: کمزور، گراں جان بے خیر مرد، چھری یا تلوار کی پیٹھ، مصیبت، فقیر، عیال، وکیل، یتیم، بوجھ، بت الكلة: كَلّ سے اسم مرہ، کند چھری۔ الكلة: تاخیر، دیر۔ الكَلَالَة: تھکن۔ الكَلِيل ج كِلَالٌ: تھکا ہوا، کہا جاتا ہے۔ بَصَرٌ كَلِيلٌ: کمزور نگاہ، وسَيْفٌ كليل: کند تلوار۔

٢۔ كَلَّ ـِ كَلًّا و كِلَّةً و كَلَالًا و كُلُولًا و كَلَالَةً و كُلُولَةً: بے والد اور بے اولاد ہونا۔ كَلَّلَ ہ کو تاج پہنانا، ۔ ہ بالحجارة: پر پتھراؤ کرنا۔ السحابُ السماءَ: بادل چاروں طرف سے گھر آنا۔ تَكَلَّلَ: تاج پہنانا، ۔ الشيئُ به: کا احاطہ کرنا۔ تَكَلَّلُوهُ: لوگوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ الكَلّ: جو بے والد اور بے اولاد ہو۔ كُلّ ایک اسم ہے جو متعدد کے افراد کے استغراق کے لئے یا واحد کے اجزاء کے عموم کے لئے وضع کیا گیا ہے اور بغیر اضافت کے استعمال نہیں کیا جاتا عام اس سے کہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، اور "ما" مصدریہ ظرفیہ کے داخل ہونے سے تکرار کا فائدہ دیتا ہے جیسے كُلَّمَا اَتَاكَ زَيْدٌ اَكْرِمْهُ: یعنی زید جب بھی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو، اور معرفہ ونکرہ کی صفت میں بھی واقع ہوتا ہے اور اس وصف کی انتہاء پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے هُوَ الْعَالِمُ كُلُّ الْعَالِمِ: وہ بڑا کامل عالم ہے۔ اور معرفہ ونکرہ محدود کی تاکید میں واقع ہوتا ہے جیسے سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ وَاَقَمْنَا حَوْلًا كَامِلًا كُلَّهُ اور لفظ كل کا حکم افراد اور تذکیر کا ہے اور معنی باعتبار مضاف الیہ کے ہوں گے اگر نکرہ کی طرف اضافت ہو گی تو معنی کی رعایت واجب ہو گی اور اس کے بعد ضمیر مفرد مذکر آئے گی جیسے كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ بِحِكْمَةٍ اور مفرد مونث کی بھی جیسے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اور مثنی کی جیسے وكُلُّ رَفِيقَيْ كُلِّ رَحْلٍ وَاِنْ هُمَا اور مجموع مذکر کی جیسے وكُلُّ اُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ: اور جمع مونث کی جیسے وَكُلُّ مُصِيبَاتِ الزَّمَانِ وَجَدْتُهَا اور اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو لفظ کی بھی رعایت جائز ہے اور معنی کی بھی جیسے كُلُّ الْقَوْمِ حَضَرَ، يَا كُلُّ الْقَوْمِ حَضَرُوْا اور مقطوع عن الاضافت کی صورت میں بھی لفظ ومعنی دونوں کی رعایت جائز ہے جیسے كُلٌّ حَضَرَ و كُلٌّ حَضَرُوْا اور کہا گیا ہے کہ جب مضاف الیہ مقدر مفرد اور نکرہ ہو تو مفرد لانا واجب ہے اور اگر جمع مُعَرَّف ہو تو جمع لانا واجب ہے اور مقطوع عن الاضافت کی صورت میں تنوین مضاف الیہ کے بدلے میں ہے اور تقدیر پہلی مثال میں كُلُّ اَحَدٍ: ہے اور دوسری میں كُلُّهُمْ اور اگر لفظ کل نفی کے بعد واقع ہو تو نفی بعض افراد کی ہوتی ہے جیسے مَا جَاءَ كُلُّ الْقَوْمِ پوری قوم نہیں آئی کچھ آئے اور کچھ نہیں آئے، اور اگر لفظ کل پہلے ہو اور نفی بعد میں ہو تو نفی سارے افراد کی ہو گی جیسے كُلُّهُمْ لَمْ يَقُوْمُوْا: یعنی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا اور اس پر الف لام داخل نہیں

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہوتا مگر اس وقت جب کہ مضاف الیہ کے عوض میں ہو یا لفظ کل ہی کا ارادہ کیا گیا ہو جیسے: اَلْکُلُّ لِاِحَاطَةِ الاَفْرَادِ۔

الکُلَّةُ: توپ کا گولہ، شیشے کی گولی جس سے بچے کھیلتے ہیں الکُلُّ کا مونث: کہا جاتا ہے۔ کُلَّةُ امْرَاَةٍ: جیسے کہا جاتا ہے۔ کُلُّ امْرِئٍ۔ الکِلَّةُ ج کِلَلٌ و کِلَاتٌ: باریک پردہ، مچھردانی یہ ناموسیہ کے نام سے معروف ہے، ہودج کے سرے پر سرخ اون۔ ——— والکَلَلُ: حالت کہا جاتا ہے۔ بَاتَ بِکَلَلِ سُوْءٍ: اس نے بری حالت میں رات گزاری۔ الکُلِّیُّ کل کی طرف منسوب یا جس پر اطلاق کیا جائے۔ العِلْمُ الکُلِّیُّ: علم الٰھی۔ الکُلِّیَّةُ: کالج جہاں مختلف علوم پڑھائے جاتے ہوں۔ کُلِّیَةُ الشیئ: مکمل چیز، کہا جاتا ہے۔ اَخَذَهٗ بِکُلِّیَّتِهٖ: یعنی تمام لے لیا۔ الکُلِّیَّاتُ فی عرف المنطقیین: وہ مفہوم ہے جو بہت سے افراد پر صادق ہو اور اس کی پانچ قسمیں ہیں۔

۱۔ جنس: وہ کلی جس کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں جیسے حیوان

۲۔ نوع: وہ کلی جس کے افراد کی حقیقتیں متحد ہوں جیسے انسان۔

۳۔ فصل: وہ کلی جو ماعدا سے ممتاز کر دے جیسے ناطق۔

۴۔ خاصہ: وہ کلی عرضی جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو جیسے ضاحک۔

۵۔ عرض عام: وہ کل عرضی جو ایک سے زائد حقیقت کے ساتھ ہو جیسے ماشی۔ الکَلَالَةُ: جس کے والد اور ولد نہ ہوں کیونکہ باپ اور بیٹا انسان کی نسل کے دو طرفیں ہوتی ہیں جب اس نے فوت ہونے کی حالت میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی پیچھے وارث نہ چھوڑا تو گویا وہ دونوں طرفوں سے محروم فوت ہوا، دور کی رشتہ داری کہتے ہیں۔ هُوَابْنُ عَمِّ الکَلَالَةِ وَابْنُ عَمِّ کَلَالَةً: وہ قبیلہ سے چچا زاد ہے، قریبی نسبتی رشتہ دار نہیں۔ — من القرابة: والد اور ولد نہ ہو، کیونکہ میت کی نسبت اور حسب و نسب انہی سے چلتا ہے جب یہ قریبی نہ رہے تو گویا وہ قریبی رشتہ داروں سے محروم ہے۔ الاِکْلِیْلُ ج اَکِلَّةٌ و اَکَالِیْلُ: تاج، جواہر سے مزین پٹکا، عیسائی اس تاج کو شادی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں۔ کَلَّلَ الکَاهِنُ العُرُوْسَیْنِ فَتَکَلَّلَا: کاہن نے شادی شدہ جوڑے کو تاج پہنایا انہوں نے پہن لیا، کیونکہ وہ شادی کی رسم کے موقع پر ان دونوں کے سروں پر تاج رکھتا ہے اور عیسائی کاہنوں کے سر کے بال کاٹتے وقت بھی اسے سر کے اردگرد ڈالتے ہیں، ناخن کے اردگرد کا گوشت، — الاِکْلِیْلُ الدَّائِرِیُّ: اور اسے حلقہ دائرہ یہ بھی کہا جاتا ہے (ھ) متحد مرکز والے دو دائروں کے درمیان کی محصور سطح یعنی مساوی الجانبین ہو جس کی پیائش ہے:

(ش ۲۔ ش ۲) اِکْلِیْلُ المَلِكِ (ن): سینجی، تپتیا گھاس (ترفل) اِکْلِیْلُ الجَبَلِ (ن): اکلیل کوہستانی، ایک سبز جھاڑی نما پودا، اس کے خوشبودار سبز پتے مسالے کے طور پر اور ان کا تیل ادویات/عطریات سازی میں مستعمل ہے۔ (Rosemary)

۳۔ کَلَّلَ فی الامر: کوشش کرنا۔ — السبعُ: درندہ کا حملہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ کَلَّلَ تَکْلِیْلَةَ السَّبُعِ: یعنی اس نے درندے جیسا حملہ کیا۔ — علیه بالسیف: پر تلوار سے حملہ کرنا۔

۴۔ تَکَلَّلَ السحابُ عن البرق: آہستہ آہستہ چمکنا۔ اِکْتَلَّ السحابُ عن البرق: آہستہ آہستہ چمکنا۔ — الغمامُ بالبرق: بادل میں بجلی چمکنا، کوندنا۔ اِنْکَلَّ الرجلُ: مسکرانا۔ — البرقُ: بجلی کا آہستہ آہستہ چمکنا۔ — السحابُ عن البرق: آہستہ آہستہ چمکنا۔

۵۔ کَلَّا: ہرگز نہیں، حرف ردع ہے، تنبیہ اور زجر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

○ لا یَکِلُّ: نہ تھکنے والا، ان تھک، بے حد سرگرم۔ کَلَّلَ ہ ھ کو کا تاج پہنانا۔ ———: پادری کا مرد و عورت کے جوڑے کا نکاح کرنا۔ کُلِّلَ بالنجاح: کامیاب ہونا۔ تَکَلَّلَ: شادی شدہ ہونا، کی شادی ہونا۔ کَلّ: تھکاوٹ، تاریکی، دھندلا پن، کند ذہنی، سستی، ڈھیلا، سست، کند، دھندلا، دھندلی (نظر)، کمزور (ذہن) کِلَّة جمع کِلَّات و کِلَل: مہین یا باریک برقعہ، نقاب، پردہ، لمبا پردہ، مچھردانی، کَلَل و کَلَال و کَلَالَة: تھکاوٹ، دھندلا پن، کند ذہنی۔ کَلِیل: تھکا ہوا، تھکا ماندہ، کمزور، کند، کند ذہن۔ اِکلیل جمع اَکالیل واَکِلَّة: تاج، مکٹ، کلاہ شاہی، پھولوں کا سرپیچ، پھولوں کا گجرا، ہار، پھولوں کا ہار، سنہرے تاروں کا ہار، سہرا، پھولوں کی مالا، شادی، شادی کی تقریب (مسیحیت میں) ھزارہ: (ایک چھتری دار پھول جو گچھے کی طرح ہوتا ہے)۔ اِکْلِیْلُ الجبل: ایک قسم کی سدابہار جھاڑی جس کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں۔ اکلیل الشوك: کانٹوں کا تاج۔ اِکْلِیْلُ المَلِك: زرد شیریں جیتا۔ تکلیل: تقریب تاج پوشی، تاج پہنانا، کال: تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ مُکَلَّل: تاج پہنے ہوئے، ... شادی شدہ ...

○ کُلّ: کلیت، مجموعیت، ہر ایک، سب (بصورت اضافت)۔ الکُلّ: سب، سارا، جملہ، ہر چیز، بالکُلِّ: بحیثیت مجموعی، فی الجملہ، مجموعی طور پر، کھلا، ڈھیر کے حساب سے، سارے کا سارا۔ الکل فی الکل: ہر چیز پر مشتمل، قادر مطلق، کُلٌّ مِن فلان و فلان و فلان: الف، ب بھی ث بھی۔ علی کُلٍّ: بہر حال، بہر صورت کُلّه: اس کا سب، وہ پورے کا پورا، یہ سراسر کُلّ ذلك: وہ سب کُلّ البیت یا البیت کُلّهُ: پورا گھر۔ کُلُّ الرجال یا الرجال کُلُّهُم: سب مرد۔ الحقیقة کُلُّ الحقیقة: ساری حقیقت، اصل واقعہ، السِرُّ کُلُّ السِرّ: ایک بہت بڑا راز، بھید۔ الخَیْرُ کُلُّ الخیرِ: سچی یا مکمل خوشی۔ کُلُّ رجُلٍ: ہر آدمی، مرد۔ کُلُّ شیٔ: ہر چیز، سب کچھ، سب کُلّ اَحَدٍ: اور کُلُّ واحد: ہر ایک۔ کُلُّ مَنْ: ہر وہ شخص جو کوئی، جو بھی، جو بھی کوئی بھی۔ کُلُّ مَا: وہ سب، جو بھی کچھ، جس قدر، جو بھی کیسا ہی، جو کچھ بھی۔ کُلُّ ما فِی الامر اَنَّ: یہ کچھ نہیں مگر، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ۔ کُلَّ وقتٍ: کسی وقت، ہمیشہ فی کُلِّ سَبْعَة اَیَّامٍ: ہر سات دنوں میں، ہر سات دن لِکُلِّ اَلْف: فی ہزار، کُلَّما: جب بھی، جس وقت، جب بھی۔ کُلَّمَا ...... کُلَّما: جتنا...... اتنا۔ کُلِّی: تمام، کامل، بے کم و کاست، عام، مجموعی، دوررس، بہت عام، جامع، مطلق، ہمہ گیر۔ کُلِّیَّة: مجموعیت، کلیت، سالمیت، کاملیت، جمع کُلِّیات: یونیورسٹی کا شعبہ، کالج، اعلیٰ تعلیم کا ادارہ، اکیڈمی، مدرسہ ثانوی۔ کُلِّیَات: (مصنف کی) کی تخلیقات۔ پانچ منطقی خصوصیات۔ کُلِّیَّةً: یکسر، پوری طرح، بالکل، سراسر، مطلقاً۔ بِالکُلِّیَّة: بحیثیت مجموعی، فی الجملہ۔ مجموعی طور پر۔ لا — بالکلیة: بالکل نہیں۔ بِکُلِّیَّتِهٖ: مکمل طور پر، پوری طرح۔ کُلِّیة التجارة: کمرشل کالج۔ کلیة حربیة: ملٹری اکیڈمی۔ کُلَّة جمع کُلَل: (بندوق کی) گولی، (توپ کا) گولا، بم (بچوں کے کھیلنے کی) گولی۔ کَلَّا: بالکل نہیں، نہیں بلکہ، ہرگز نہیں، کسی صورت بھی نہیں، یقیناً نہیں، کبھی نہیں، کَلَّا ثُمَّ کَلَّا: ہزار بار نہیں، بالکل نہیں۔

کلا: ۱۔ کَلَأَ ـ کَلْأً وکِلَاءً وکِلَاءَةً اللّٰهُ فُلَانًا: اللہ کا کسی کی حفاظت کرنا۔ — النجمَ متی یطلع: ستارے کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کرنا، انتظار کرنا۔ بصرَهٗ فی الشیئ: کو بار بار دیکھنا۔ کَلَّأَ تَکْلِیْئًا وتَکْلِئَةً السفینةَ: کشتی کو کنارے سے قریب کرنا۔ الرجُلَ: کو باز رکھنا، روکنا۔ — فی الامر: کو غور سے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

دیکھنا۔ تَکَلُّنَۃً: ہوا سے پناہ کی جگہ میں آنا۔ کَالأً مُکَالأَۃً وکِلاءَۃً: کا انتظار کرنا۔ اَکْلَأَ اِکْلاءً بصرہٗ فی الشیئ: کسی چیز کو درستگی کی غرض سے بار بار دیکھنا۔ ـــــ عینہٗ: کو جگانا۔ اِکْتَلأ اِکْتِلاءً ت عینہٗ: بے خوابی میں مبتلا ہونا۔ ـــــ من فلان: سے بچنا۔ رَجُلٌ کَلُوْءُ العَیْنِ: مرد بیدار چشم جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو، عَیْنٌ کَلُوْءٌ: بے نیند کی آنکھ۔ الکَلّاء: بندرگاہ، دریا کا کنارہ۔ المُکَلَّأُ: بندرگاہ، دریا کا کنارا، ہر وہ جگہ جہاں ہوا سے پناہ مانگ سکیں۔

۲۔ کَلَأَ ـَ کَلْأً وکُلُوْءَۃً الدَّیْنُ: کی ادائیگی میں دیر ہونا صفت کَالِئٌ وکَالٍ۔ کَلَّأَ تَکْلِیْئًا: بیعانہ لینا۔ ـــ تَکْلِئَۃً فی الطعام وغیرہ: میں بیع سلم وسلف وغیرہ کرنا۔ اَکْلَأَ اِکْلاءً فی الطعام میں بیع سلم یا سلف کرنا۔ تَکَلَّأَ واسْتَکْلَأَ الکُلْأَۃَ: بیعانہ لینا۔ اِکْتَلَأَ کُلْأَۃً: بیعانہ لینا۔ الکَالِئُ والکَالِیُ ج کَوَالِئُ وکَوَالٍ: بیعانہ، ادھار۔ الکُلْنَۃُ: بیعانہ، ادھار۔

۳۔ کَلَأَ وکَلِئَ ـَ کَلَأَ المکانُ: سبزہ زار ہونا۔ ـــ ت الناقۃُ: اونٹنی کا سبزی کھانا۔ اَکْلَأَ اِکْلاءً المکانُ: جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ ـــ الناقۃُ: اونٹنی کا گھاس کھانا۔ اِسْتَکْلَأَ المکانُ: سبزہ زار ہونا۔ الکَلَأُ ج اَکْلاءُ: خشک یا تازہ گھاس۔ مَکَانٌ کَلِئٌ ومُکْلِئٌ مونث کَلِئَۃٌ ومُکْلِئَۃٌ: بہت سبزہ زار جگہ۔ اَرْضٌ مُکْلأَۃٌ: بہت سبزہ زار زمین۔

۴۔ کَلَأَ ـَ کَلْأً وکُلُوْءَۃً عمرُہٗ: کی عمر کا ختم ہونا۔ اَکْلَأَ اِکْلاءً عمرَہٗ: کو ختم کردینا۔ الأَکْلَأُ: اسم تفضیل، کہا جاتا ہے۔ بَلَّغَ اللّٰہُ بِکَ اَکْلَأَ العمر یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے۔

۵۔ کَلَأَ ـَ کَلْأً وکِلاءً وکِلاءَۃً ہٗ بالسوط: کو کوڑے مارنا۔

۶۔ کَلَّأَ تَکْلِیْئًا وتَکْلِئَۃً الی فلان فی الامر: میں کی طرف آگے بڑھنا۔

ـ کَلَأَ ـَ کَلْأً وکِلاءً وکِلاءَۃً ہٗ: کی حفاظت کرنا، کی پاسبانی کرنا، نگہبانی کرنا، رکھوالی کرنا، کو محفوظ رکھنا، کو نقصان سے بچانا۔ اِکْتَلَأَ: (آنکھ کا) بے خوابی میں مبتلا ہونا (آنکھ کو) نیند نہ آنا۔ کَلَأ جمع اَکْلاء: گھاس، نباتات، گھاس پات، جڑی بوٹیاں، چارہ گھاس۔ کَلُوء العین: بے خواب، بیدار۔

کلب: ۱۔ کَلَبَ ـَ کَلْبًا الفرسَ: گھوڑے کو مہمیز مارنا۔ ـــ المزادۃ: توشہ دان میں تسمہ لگانا۔ کَلَبَ ـِ کَلْبًا الرجُلُ: کتوں کے بھونکنے کے لئے انہیں کی طرح آواز نکالنا۔ ـــ الکلبُ: کتے کا شکاری ہونا، انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔ کَلِبَ ـَ کَلَبًا: پیاسا ہونا۔ ـــ الکَلْبُ: دیوانہ ہونا۔ ـــ الرجُلُ: پاگل کتے کے کاٹنے سے دیوانگی والا ہونا۔ بغیر آسودگی کے بہت کھانا، کو دیوانہ کتے کا کاٹنا، دیوانہ کتے کے کاٹنے سے چیخنا، غضبناک ہونا۔ الکَلْبُ: کتے کا شکاری ہونا، انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔ ـــ علی الامر: کا حریص ہونا۔ ـــ فی کذا: کی امید رکھنا۔ ـــ علی الرجل: سے اصرار کرنا، کہا جاتا ہے۔ کَلِبَ الدَّھْرُ عَلٰی اَھْلِہٖ: زمانے نے ان پر بار بار مصائب ڈھائے۔ ـــ القِدُّ علی الاسیر: قیدی پر کٹے ہوئے حصہ کا خشک ہونا اور کاٹنا۔ ـــ الشجر: درخت کی سیرابی نہ ہونے کی وجہ سے پتوں کا خشک ہونا اور گزرنے والوں کے کپڑوں سے الجھنا۔ الشتاءُ او الزمانُ: سخت ہونا۔ کُلِبَ کَلَابًا الرجُلُ: کتے کے کاٹنے کی وجہ سے دیوانہ ہونا۔ کَلَّبَ الکلبَ: کتے کو سدھانا، شکار کرنا سکھانا۔ کَالَبَ کِلَابًا ومُکَالَبَۃً الرجُلَ: سے کھلم کھلا دشمنی کرنا اور اس پر تنگی ڈالنا۔ ـــ تِ الابلُ: اونٹوں کا کانٹے دار درخت چرنا۔ اَکْلَبَ القومُ: پیاسے اونٹوں والا ہونا۔ تَکَالَبَ القومُ: آپس میں کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ تَکَالَبُوْا علی کذا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا کہا جاتا ہے۔ تَکَالَبَ النَّاسُ عَلَی الدُّنْیَا: یعنی لوگ دنیا کے بہت حریص ہوگئے۔ اِسْتَکْلَبَ الرجُلُ: کتوں کی طرح بھونکنا۔ ـــ الکَلْبُ: کتے کا شکاری ہونا۔ انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔ الکَلْبُ ج کِلَابٌ واَکْلُبٌ وجج اَکَالِبُ وکِلَابَاتٌ (ح): ہر ایک کاٹنے والا درندہ، کتا، کہا جاتا ہے۔ کَفَّ عَنْہُ کِلَابَہٗ: یعنی اس نے اس کو گالی دینی اور تکلیف پہنچانی چھوڑ دی۔ کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ بِوَادِی الکَلْبِ: جبکہ گھر بار نہ ہو جہاں وہ ٹھکانا لے سکے) چکی کے دھرے کے سرے کا لوہا، کجاوہ کے کنارہ کی میخ جس پر مسافر اپنے توشہ وغیرہ کو لٹکائے، دیوار میں ٹیک لگانے کی تھونی، تلوار کے قبضہ کی میخ، ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز باندھی جائے مثلاً تسمہ ـــ (فلك): ایک ستارے کا نام۔ ـــ کَلْبُ الْجَبَّارِ، الکَلْبُ الْاَکْبَرُ والکَلْبُ الْاَصْغَرُ وکَلْبُ الرَّاعِیُ الخ...... (فلک) ستاروں کے نام، (ح): کَلْبُ الْمَاءِ اود بلاؤ، سنجاب او کَلْبُ الْبَحْرِ: شارک مچھلی کَفُّ الکَلْبِ: (ن) ایک قسم کی پھیلی ہوئی گھاس۔ لِسَانُ الکَلْبِ: ایک پودا۔ الکِلَابُ البَرِیْدِیَّۃُ (اع): ایام حرب میں ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے کتے۔

الکَلَبُ (مص) (طب) کتے کی دیوانگی، سخت پیاس، موسم سرما کی ابتداء اور کہا جاتا ہے۔ دَفَعْتُ عَنْکَ کَلَبَ فلان: یعنی میں نے تم سے فلاں کے شر کو دور کر دیا۔ الکَلْبَۃُ (ح): کتیا، کانٹا اُمّ کَلْبَۃٍ: بخار۔ الکَلْبَتَان: لوہار کی سنی، دانت اکھاڑنے کا زنبور اور اس کو کَلَّابَہ بھی کہتے ہیں۔ الکَلْبَۃ مجتی تنگی، قحط، سخت سردی (ح) بلی، کتے کی تھوتھنی کے دونوں طرف کے بال۔ الکَالِبُ: کتے والا، کتوں کا جھنڈ۔ الکَلِبُ ج کَلِبُوْنَ: کتے کے کاٹنے سے دیوانہ۔ عَامٌ کَلِبٌ: سخت قحط کا سال۔ دَھْرٌ کَلِبٌ: غم میں مبتلا کرنیوالا زمانہ۔ سَائِلٌ کَلِبٌ: بہت اصرار سے مانگنے والا سائل، کہا جاتا ہے۔ ھُوَ کَلِبٌ عَلٰی کَذَا: وہ فلاں چیز کا بہت حریص ہے۔ الکَلِبَۃُ: کَلِبٌ کا مونث۔ خاردار درخت۔ اَرْضٌ کَلِبَۃٌ واَرْضٌ کَلِبَۃُ الشَّجَرِ: خشک اور سخت زمین موسم بہار سے پہلے) الکَلَابُ: کتے کے کاٹنے کی وجہ سے دیوانگی۔ الکُلَّابُ والکَلُّوْبُ ج کَلَالِیب: مہمیز، گھوڑے سوار یا سدھانے والے کے جوتے پر لگا ہوا لوہے کا ٹکڑا آگ نکالنے کیلئے مڑے ہوئے سر کی سلاخ، آنکس لوہے کا کنڈا۔ لکڑی جس کے آخر پر لوہا لگا ہو۔ کَلَالِیبُ الْبَازِیْ: باز کے پنجے، کَلَالِیبُ الشَّجَرِ: درخت کے کانٹے۔ الکَلَّابُ ج کَلَالِیبُ: کتے والا، شکاری کتوں کو سدھانے والا، کجاوہ کے کنارے پر کچھ لٹکانے کیلئے میخ، گوشت وغیرہ لٹکانے کے لئے لوہے کا کنڈا۔ الکُلَّابَۃ بمعنی کُلَّاب لیکن یہ اس سے خاص ہے۔ الکَلِیْبُ: کتوں کا جھنڈ۔ الکَلِیْبُ ج کَلْبٰی: کتے کے کاٹنے سے دیوانہ۔ المُکَلَّبُ (مفع): زنجیر پڑا ہوا قیدی۔ کِلَابٌ مُکَلَّبَۃٌ: سدھے ہوئے کتے۔ المُکَلِّبُ: کتوں کو سدھانے والا، شکار پکڑنے والا جانور۔ المُکَالِبُ: دلیر۔ ـــ اَرْضٌ مَکْلَبَۃٌ: بہت کتوں والی زمین۔

۲۔ الکَلْبُ: ٹیلہ کا کنارا، وادی کے پانی کی پہلی زیادتی۔ ـــ من الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کی دھاری، کہا جاتا ہے۔ اِسْتَوٰی عَلٰی کَلْبِ فَرَسِہٖ: وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ گیا۔ الکُلْبَۃ: شراب فروش کی دکان۔

○ کِلاسِکِی: کلاسک، کلاسیکل، قدیم تمدن یا ادب کا، مستند، معیاری، یونانی اور رومی طرز کا، کَلاکس جمع کَلاکسات: ہارن، بھونپو۔

○ کَلِبَ ـَ کَلَبًا: پاگل ہوجانا، پانی سے خوف کے مرض میں مبتلا ہونا۔ ـــ علی: کی للچا کر خواہش کرنا، کا حریص

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہونا۔ تکالب: ایک دوسرے پر حملہ کرنا، ایک دوسرے کی طرف دوڑنا۔ ـــ علی: پر حملہ کرنا، جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا۔ ـــ: بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا۔ اِستَکلَبَ: بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا، گھن گرج والا ہونا، سگ گزیدہ ہونا، پاگل ہونا، از خود رفتہ ہونا، مخبوط ہونا۔ کَلْبِی: کتوں سے متعلق، کلبی۔ کَلِب: باؤلے پن سے متاثر پاگل، سگ گزیدہ، حریص۔ کَلَب: ہڑک، باؤلے کتے کے کاٹنے سے دیوانگی، پانی سے خوف، سخت پیاس ـــ علی: کی حرص۔ کِلاب و کُلوب جمع کلالیب: ہک، سنڈاسی۔ کُلّابَۃ جمع کُلّابات: سنسی، چمٹا، چٹی۔ کَلِب جمع کَلْبَی: سگ زدہ، بہت زوروں کا۔ تکالُب: شدید جنگ، لڑائی، طیارہ جھڑپ، بلوہ، گڑبڑ، دنگا، لالچ، حرص۔ مَکْلُوب: سگ زدہ، پاگل، دیوانہ۔ کَلْبَش: ہتھکڑیاں، بیڑیاں۔

کلت: ۱۔ کَلَتَ ـِ کَلْتًا الشیئَ: کو جمع کرنا ـ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑانا کہا جاتا ہے۔ إنّہ لَکُلْتَۃٌ فُلْتَۃٌ کُفْتَۃٌ: وہ گھوڑا بہت اچھلنے کودنے والا ہے سوار نہیں ہونے دیتا ـــ ہ فی الاناء: کو برتن میں انڈیلنا ـــ بہ: کو پھینکنا۔ اِنْکَلَتَ ـ الماءُ: پانی ڈالا جانا ـــ الرجُلُ: منقبض ہونا۔ اِکْتَلَتَ الماءَ: پانی پینا۔ الکُلْتَۃُ: کھانے کا حصہ۔

۲۔ الکَلِیتُ و الکِلِّیتُ: لمبا پتھر جس سے بجو کے بھٹ کو بند کیا جائے۔

۳۔ کَلْتَبَ کَلْتَبَۃً فی أمرِہ: معاملہ میں مداہنت برتنا۔ الکَلْتَبُ و الکُلْتُبُ: معاملات میں مداہنت برتنے والا۔

کلث: کَلْثَمَ کَلْثَمَۃً لحمُ الوجہ: بلا ترش روئی کے چہرے کا گوشت سمٹنا۔ الکُلْثُومُ: چہرے اور رخساروں پر زیادہ گوشت والا۔ جھنڈے کے سر پر ریشم کا ٹکڑا۔

کلج: الکَلَنْجُ: بہادر، سخی۔ الکُلَنْجُ: قوی مرد۔ (جمع)

کلح: کَلَحَ ـَ کُلُوحًا و کُلاحًا وجھُہُ: تیوری چڑھا ہوا ہونا صفت کالِحٌ، کہا جاتا ہے۔ کَلَحَ فی وَجْہِ الصَّبِیِّ او المَجْنُونِ: بچے یا مجنون کو گھبراہٹ میں ڈالنا۔ کَلَّحَ وجھَہُ: کو ترش رو بنانا۔ کالَحَ فلانًا: سے قوت میں مقابلہ کرنا، باہم تختی کرنا ـــ القمرُ: چاند کا بادل میں چھپنا۔ اَکْلَحَ وجھَہُ: تیوری چڑھا ہوا ہونا ـــ وجھہ: تیوری چڑھانا۔ تکلّحَ البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا ـــ الوجہُ: تیوری چڑھا ہوا ہونا ـــ الرجُلُ: مسکرانا۔ اِکْلَوَّحَ وجھُہُ: تیوری چڑھانے میں دانت نکالنا، کہا جاتا ہے دَھرٌ کُلاحٌ: سخت اور تنگی کا زمانہ۔ کَلاحِ: مبنی بر کسرہ: قحط زدہ سال۔ الکَلْحَۃُ: منہ اور اس کا اردگرد۔ الکالِحُ (فا) وہ شخص جس کے ہونٹ کھلے ہوئے ہوں، کہا جاتا ہے۔ دَھرٌ اَوْ شَقاءٌ کالِحٌ: سخت زمانہ یا سخت تکلیف۔ الکَوْلَحُ: قبیح۔

◌ کَلَحَ ـ کُلاحًا و کُلُوحًا: تیوری چڑھانا، کڑے تیوروں سے دیکھنا، اداس نظر آنا۔ اَکْلَحَ و تکلّحَ: بمعنی بالا کَلَحَۃ: منہ کے اردگرد کی جگہ، وضع قطع، چال ڈھال، چہرے کا اتار چڑھاؤ۔ کالِح: سنجیدہ، اداس، مرجھایا ہوا، سوکھا پھیکا، بے رنگ، ہلکا بھورا۔

کلد: ۱۔ کَلَدَ ـِ کَلْدًا و کَلَّدَ الشیئَ: کو تہ بتہ جمع کرنا۔ تکلّدَ الرجُلُ: موٹے گوشت والا ہونا، قوی ہونا۔ الکَلَدُ: واحد۔ کَلَدَۃ: سخت زمینیں۔

۲۔ الاِکْلِیدُ: چابی (جیسے اقلید) (یونانیہ)۔

کلر کالوری او حُرَیْرَۃ (ف): ایک گرام پانی گرم کرنے کے لئے حرارت کی ضروری مقدار ایک سنٹی گریڈ۔ الکُلُورُ (ک): بسیط مادہ گلا گھونٹنے والی بو کی حامل ایک سبزی مائل زرد گیس بیز ہریلی گیس 1915ء کی جنگوں میں پہلی بار استعمال کی گئی۔ جراثیم کش مواد اور رنگ اور داغ دھبے دور کرنے والے محلولات بنانے میں شامل ہے۔ الکُلُورُو مِیسِیتِین: ٹائیفائڈ بخار کے علاج کے لئے استعمال ہونے والی دوا (یونانی ولاطینی)۔

کلز: کَلَزَ ـِ کَلْزًا و کَلَّزَ الشیئَ: کو جمع کرنا۔ اِکْلَنْزَ اِکْلِنْزازًا البازی: باز کا سمٹ کر شکار پکڑنے کا ارادہ کرنا ـ الرجُلُ: سکڑنا۔ الکِلِزُّ: مضبوط پٹھے والا مرد۔

کلس: ۱۔ کَلَّسَ البیتَ: پر گچ سے استرکاری کرنا ـــ الشیئَ: کو گچ کی مانند بنانا۔ تکلّسَ: چونا یا گچ ہونا، چونے یا گچ کی مانند ہونا۔ الکِلْسُ: چونا۔ الکَلّاسُ: چونے والا یا چونا بیچنے والا۔ الکَلْسِیُومُ: کیلسیم (Calcium)

۲۔ کَلِسَ و تکلّسَ من الماء: پانی سے سیراب ہونا۔

۳۔ کَلَّسَ عن قِرْنِہ: بزدل ہونا اور مدمقابل سے بھاگنا ـــ علیہ: پر حملہ کرنا۔ سیفٌ کَلّاسٌ: کاٹنے والی تلوار۔ المُتَکَلِّسُ: تیز دوڑنے والا۔

۴۔ الکُلْسَۃُ: سیاہی مائل، بھورا رنگ۔ الکَلْسَۃُ ج کَلَسات: جرابیں، اسے قَلْشِین ج کَلاشِین بھی کہا جاتا ہے (عامیہ لاتینیہ)۔ الاَکْلَسُ: سیاہی مائل بھورے رنگ کا۔

الاَنْکَلِیسُ: (ح) ایک مچھلی جو سانپ کی مانند ہوتی ہے اور اس کو [illegible] میں اسے الجرّی کہتے ہیں)

۵۔ الکَلاسِیکِیَّۃُ یا الادب الکَلاسِیکِی: لاتین اور یونان کے قدیم اور بڑے بڑے ادباء کے مقرر کردہ ادبی طریقوں کے مطابق مدرسی ادب کا دبستان۔

۶۔ کَلْسَمَ: ادائے حقوق میں کاہلی کی وجہ سے تاخیر کرنا ـ الرجُلُ: تیز جانا ـ الیہ: کا قصد کرنا۔

کلص: کَلْصَمَ الرجُلُ: بھاگنا، فرار ہونا۔

◌ کَلْخ: شاہ بادیان کَلْخ: ایک چھتر دار پودے کلخ فارسی کا رس (گوند) جس کی بو بہت گندی ہوتی ہے اور اسے تشنج وغیرہ کا دورہ روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، بلکہ اخراج بلغم اور پلستر کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

◌ الکَلْدان: کلدانی قوم کا (بابل کا) باشندہ۔ کَلْدانی: (اسم وصفت) نجومی، منجم، جوتشی۔

◌ کَلَّسَ ہ: پر چونے سے استرکاری کرنا، سفیدی کرنا ـــ ہ: کو جلا کر چونا بنانا، چونے کی تہہ جما کر پتھر بنا دینا۔ کِلْس: چونا۔ کِلْسِی: چونے کا۔ حجارۃ کلسیۃ: چونے کا پتھر۔ کَلّاسَۃ: چونے کی بھٹی۔ مُکَلَّس: چونا بنایا ہوا۔ چونے کا پتھر بنایا ہوا۔ کَلْسَۃ جمع کَلْسات: جراب موزہ، پاتابہ۔ کَلْسُون جمع کَلْسُونات: تنگ مہری کا پاجامہ جو پتلون کے نیچے پہنا جاتا ہے۔

◌ کَلْسِیطَۃ جمع کَلاسِط: بمعنی کَلْسَۃ۔

کلع: ۱۔ کَلَعَ ـ کَلْعًا الوسخُ علی رأسہ او فی رأسہ: سر پر میل کا خشک ہونا۔ کَلِعَ ـَ کَلَعًا ت قَدَمُہُ: قدم کا میلا ہونا اور پھٹنا ـــ الوسخُ علی رأسہ او فی رأسہ: کے سر پر میل کا خشک ہونا ـــ رأسُہُ: سر کا میلا ہونا ـ ت قوائمُ الدابّۃِ: چوپائے کی ٹانگوں میں سخت خارش ہونا۔ کَلِعَ کَلَعًا و کُلاعًا البعیرُ: پھٹے ہوئے کھر والا ہونا۔ اَکْلَعَہُ الوسخُ: پر میل کچیل کا تہ بتہ جمنا۔ تکلّعَ القومُ: جمع ہونا اور باہم قسم کھانا۔ الکَلَعُ: بوائی، پاؤں کی پھٹن اور میل۔ الکَلِعُ مونث کَلِعَۃ: بوائی والا، جس شخص یا چیز پر میل جم گیا ہو، کہا جاتا ہے۔ ھُوَ اَسْوَدُ کَلِعٌ: یعنی وہ میل سے کالا ہے۔ الکُلْعَۃُ: ایک مرض جو اونٹ کے پچھلے حصہ میں ہوتا ہے۔ الکَلَعَۃُ: بکریوں کے ریوڑ کا ایک حصہ، بہت سی بکریاں۔ الکَوْلَعُ: میل، کچیل۔

۲۔ الکَلِعُ ج کَلِعَۃٌ: مرد بد، فرومایہ۔ الکُلاع: تختی شدائد میں صبر، مواقع جنگ۔

کلف: کَلِفَ ـَ کَلَفًا الوجہُ: چہرے کا چھائیوں والا ہونا، چہرے پر سیاہیاں پڑ جانا۔ صفت اَکْلَفُ مونث کَلْفاءُ ـ اِکْلافَّ اِکْلِفافًا: چھائیں کے رنگ کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونا۔الکَلَفُ: سیاہی زردی مائل، چھائیں۔الکُلْفَةُ:
چھائیں کا رنگ۔اَلْکَلْفَاءُ مونث اَکْلَفُ کی: تیز سرخ
شراب جو سیاہی مائل ہو۔سرخ سیاہی مائل شراب کا
مٹکا۔
۲۔کَلِفَ ـــ کَلَفًا بہ: کا عاشق زار ہونا۔صفت کَلِفٌ۔
ـــ الامرَ: کو مشقت پر برانگیختہ کرنا۔کَلَّفَ ہٗ: کو دشوار
کام کا حکم دینا۔اَکْلَفَ ہٗ بکذا: کو کا عاشق زار بنانا۔
تَکَلَّفَ الامرَ: دشوار کام برداشت کرنا۔تکلف کرنا۔
الکِلْفُ: عاشق زار۔الکَلَفُ: کسی چیز کی محبت اور دل
کی مشغولیت اور مشقت۔الکُلْفَةُ: مشقت، رنج، سختی،
کسی مصیبت یا حق کے بارے میں جو رنج تمہیں لاحق
ہو۔الکَلَافَةُ: سخت محبت، اشتیاق۔التَّکْلِفَةُ ج
تَکَالِیْفُ: مشقت، شاعر کا کہنا ہے سَئِمْتُ
تَکَالِیْفَ الْحَیَاةِ: میں زندگی کی مشقتوں سے تنگ
آگیا ہوں۔الکُلُوْفُ: دشوار امر۔المُکَلَّفُ
والمُتَکَلِّفُ: لایعنی امور میں پڑنے والا۔
کلک: ا۔الکَلَكُ ج کَلَکَاتٌ: عراق کے دریاؤں میں
چلائی جانے والی کشتی جسے طوف بھی کہا جاتا ہے۔
(فارسیہ)۔
○ کَلِفَ ـــ کَلَفًا: چہرے کا سرخ سانولے رنگ کا ہو
جانا، چہرے پر چھائیاں پڑنا ـــ ب: کو پسند کرنا ـــ
ب: کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، پر تلا ہوا ہونا، کا متمنی
ہونا، خواہاں ہونا، آرزومند ہونا ـــ ب: سے بہت
لگاؤ رکھنا، کا بہت شائق ہونا، کی محبت میں گرفتار
ہو جانا۔کَلَّفَ ہ ھا/ب: کو کچھ تفویض کرنا، کے سپرد
کوئی کام کرنا ـــ ہ ھ: کو کچھ مہنگا پڑنا، پر خرچ کرنا۔
کَلَّفَ خاطِرَہٗ: زحمت اٹھانا۔کَلَّفَہٗ شَطَطًا: سے
بہت کی توقع کرنا یا مطالبہ کرنا۔کَلَّفَ نفسَہٗ عَنَاءَ
(مؤونةَ یا مَشَقَّةً): کی زحمت اٹھانا، ناک میں دم
آنا۔کَلَّفَہٗ ثَمَنًا باهظًا: کو بھاری قیمت ادا کرنا۔
مَهْمَا کَلَفَهٗ الامرُ: ہر قیمت پر، کچھ بھی کیوں نہ ہو۔
تَکَلَّفَ ہ/ب: پر کا بوجھ پڑنا ـــ ہ: کوئی کام، خرچہ
اٹھانا ـــ ہ: (اخراجات) برداشت کرنا پڑنا، (خرچ)
ادا کرنا، چکانا، (کوئی کام) سنبھالنا ـــ ہ: کو بے دلی
سے کرنا، کو بناوٹی انداز سے کرنا، میں تصنع کرنا، خود کو
کچھ کرنے پر مجبور کرنا، کو مشکل سے کرنا مثلاً تَکَلَّفَ
الضَّحْکَة: زبردستی ہنسنا ـــ: تصنع کرنا، غیرفطری
ہونا، تصنع سے بھرا ہونا، سردمہرانہ ہونا، پرتکلف ہونا،
رسمی ہونا، ظاہری ہونا تکلفات کا بہت پابند ہونا،
تکلفات برتنا یا تکلفات سے کام لینا ـــ ہ علی:
کوئی رقم کے لئے خرچ کرنا ـــ علی ہ: کو اتنا مہنگا
پڑنا۔کَلَف واحد کَلَفَة: چھائیاں۔کَلَفُ
الشمس: سورج کے داغ۔کَلِفٌ ب: کا بہت
عاشق، سے بہت لگاؤ رکھنے والا، کا بہت شائق۔کُلْفَة
جمع کُلَف: بے کلی، بے چینی، بے آرامی، تکلیف،
تکلیف دہ (شخص، کام یا چیز)، تکلف، اداب، پر
تکلفی، سردمہرانہ رویہ، تصنع، بناوٹ، راہ و رسم کی
پابندی، انداز، اخراجات، مصارف، لوازمات (بٹن،
بکسوئے، ڈوریاں، فیتے، تسمے وغیرہ)۔الکُلَفُ
الشمسیة: سورج کے داغ۔کَلَّاف: سائیس۔
کَلَّافی: گدھوں کو کرائے پر دینے والا۔اَکْلَف۔
مونث کَلْفَاء جمع کُلْف: بھورا سرخ، چھائیاں پڑا
ہوا، داغ دار۔تکلیف جمع تکالیف: بوجھ ڈالنا،
دق کرنا، جان کھانا، پریشان کرنا، تکلیف دینا، آرام
میں خلل ڈالنا، سپرد کرنا، اختیار دینا، سونپنا، ذمہ داری
عائد کرنا، مطالبہ کرنا، جواز، اختیار، اجازت، اللہ تعالیٰ
کا حکم، بار، بوجھ، ناراضی، زحمت، وبال جان، ہنگامہ،
دردسری، جنجھٹ، طور طریقہ، خوش اخلاق کا تکلف،
اخراجات، مصارف، ٹیکس، محصولات، محاصل، ٹیکس کا
بوجھ، قانونی گنجائش ہلا تکلیف: بے تکلفانہ، بے
تکلفانہ طور پر۔کشف التکلیف: کھیوٹ، خسرہ
(پٹواری کا کھاتہ)۔تکالیف المعیشة: مصارف
زندگی۔تَکَلُّف: دباؤ، مجبوری، پابندی، راہ و رسم کی
پابندی، تصنع، باوٹ، مکاری، منافقت۔مُکَلَّفٌ ب:
کا اختیار دیا ہوا، کی اجازت دیا ہوا، کا مجاز، کا مختار جسے
کچھ تفویض کیا گیا ہو، کا پابند، کا مستوجب، کے لئے
ذمہ دار، پر مجبور ـــ: ٹیکس کی زد میں آنے والا، ٹیکس ادا
کرنے والا، دینی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا پابند،
قانونی طور پر لائق صحیح الدماغ۔مُکَلَّف بالشؤون:
مدار المہام، ناظم الامور۔مُتَکَلِّف: رسمی، پرتکلف،
پابند رسوم، زبردستی کا، ظاہری، بناوٹی، مصنوعی۔
ضحکة متکلفة: زبردستی کی ہنسی۔
○ کَلَك جمع کَلَکَات: ہوا بھری مشکوں کا بیڑا۔
○ کَلْکَتّا: کلکتہ (ہندوستان کے ایک شہر کا نام)
○ کَلَاکِیع العظام: ہڈی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یا
حصے۔
۲۔الکَلْکَلُ ج کَلَاکِلُ (ع ا): سینہ یا ہنسلی کی ہڈیوں
کے درمیان کا حصہ ـــ من الفرس: بیٹھنے کی حالت
میں گھوڑے کے سینہ کا جتنا حصہ زمین پر لگے۔
الکلاکل: جماعتیں۔الکُلْکُلُ مونث کُلْکُلَة،
والکُلَاکِل مونث کُلَاکِلَةٌ: گھٹے بدن کا پستہ قد
مرد۔الکَلْکَال (ع ا): سینہ۔
○ کَلْکَلَ و تَکَلْکَلَ: کھال کا کھردرا ہونا، جلد کا سخت
ہونا۔تحت کَلْکَلِه و تحت کَلَاکِلِه: کے مار
ڈالنے والے بوجھ کے نیچے۔نَاءَ بکلکلِهِ: کو سختی سے
کچلنا، کے دل پر بھاری بوجھ ہونا۔کُلْکُلَة: جلد کی سختی
یا موٹاپا۔مُکَلْکَل: کھردری کھال، سخت (جلد)۔
کلم: ا۔کَلَمَ ـِ کَلْمًا ہٗ: کو زخمی کرنا کہا جاتا ہے۔هٰذَا
مِمَّا یَکْلِمُ الْعِرْضَ والعینَ: یہ ان چیزوں میں
سے ہے جو آنکھ اور آبرو کو زخم لگائے کَلَّمَ تَکْلِیْمًا ہٗ:
کو زخمی کرنا۔الکَلْمُ (مص): جمع کُلُوم و کِلَام:
زخم۔الکَلِیم جمع کَلْمٰی: زخمی مجروح۔
۲۔کَلَّمَ تَکْلِیْمًا و کِلَّامًا ہٗ: سے بات چیت کرنا۔
کَالَمَ مُکَالَمَةً ہٗ: سے گفتگو کرنا۔تَکَالَمَ
الرجلان: جدائی کے بعد باہم گفتگو کرنا کہا جاتا ہے۔
کَانَا مُتَصَارِمَیْنِ فاصبحا یتکالمان: دونوں ایک
دوسرے کو چھوڑے ہوئے تھے۔گفتگو کرنے لگے۔
تَکَلَّمَ تَکَلُّمًا و تِکِلَّامًا الرجلُ کلمةً
وبکلمةٍ: بات کہنا۔الکَلِمَةُ ج کَلِمٌ و الکِلْمَةُ
ج کَلِمَاتٌ: لفظ، مفرد یا مرکب جو انسان بولے۔
الکَلِمَةُ ج کَلِمٌ و کَلِمَاتٌ: کلمہ ـــ کلمة
التقوٰی: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔
اَلْعَشْرُ الْکَلِمَاتِ: اللہ تعالیٰ کے دس احکام جو بنی اسرائیل
پر نازل ہوئے تھے۔الکَلِمَةُ اور کَلِمَةُ اللّٰهِ: سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، کلمہ کا اطلاق خطبہ اور قصیدہ پر
بھی ہوتا ہے۔الکَلَامُ: قول، گفتگو۔عِلْمُ الکَلَامِ:
یہ ان مدوّن علوم شرعیہ میں سے ہے جس میں اللہ
تعالیٰ، اس کی صفات اور قانون اسلام میں مبدأ و معاد
میں ممکنات کے احوال کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔
الکَلْمَانِیُّ والکَلَمَانِیُّ والکِلِمَّانِیُّ والکِلِمَّانِیُّ:
ان سب میں تاء لگانے سے مونث کا صیغہ ہو جائیگا: فصیح
اور عمدہ گفتگو کرنے والا، بہت بولنے والا۔
رَجُلٌ تِکْلَامٌ و تِکِلَّامٌ و تِکْلَامَةٌ و تِکِلَّامَةٌ: عمدہ اور
فصیح گفتگو کرنے والا۔الکَلِیْمُ ج کُلَمَاءُ: تمہارا ہم
کلام۔کَلِیْمُ اللّٰهِ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔
رَجُلٌ کَلِیْمٌ: بہت بولنے والا۔المُتَکَلِّمُ (فا): علم
الکلام کا ماہر۔المُتَکَلَّمُ: گفتگو کی جگہ، آپ کہیں گے،
مَا اَجِدُ مُتَکَلَّمًا: یعنی میں گفتگو کی جگہ نہیں پاتا
ہوں۔
۳۔الکُلَامُ: سخت زمین۔
○ کَلَّمَہٗ: سے مخاطب ہونا، سے بات چیت کرنا، گفتگو
کرنا۔کَالَمَہٗ: سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، سے
باتیں کرنا۔تَکَلَّمَ مع عن/علی: کے ساتھ کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

متعلق بات چیت کرنا ــــــ ہ / ب: کچھ کہنا، بولنا۔

کَلْم جمع کُلُوم و کِلام: زخم، چرکا، خراش، گھاؤ۔

کَلِمَۃ جمع کَلِمات: لفظ، تکلم، تقریر، خطاب، اظہار، قول، رائے، گفتگو، مقولہ، کہاوت، دانشمندوں کا قول، مختصر اعلان، چند تعارفی یا ابتدائی کلمات، مختصر رسالہ (جو کسی خاص موضوع پر لکھا جائے) اہمیت، وزن، اثر، سند، غلبہ، طاقتور حیثیت ـ کلمۃً فکلمۃً: لفظ بلفظ، لفظی، لغوی معنی میں، حقیقی معنی میں ـ بکلمۃ اُخریٰ: دوسرے لفظوں میں ـ اَلْقَی کلمۃً: تقریر کرنا، خطاب کرنا ـ لِي کلمۃٌ معك: مجھے آپ سے بات کرنی ہے ـ جمعوا کلمتھم علی: انہوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ۔ وہ پر متفق تھے۔ اجتمعت کلمتھم: انہوں نے مل کر کام کیا، وہ متحد ہو گئے ـ اجتمعت کلمتھم علی: وہ متفق تھے کہ ـ جمعُ الکلمۃ یا توحید الکلمۃ: اتحاد، کامل اتفاق رائے ـ اتحادُ الکلمۃ: ہم آہنگی، اتفاق، اتحاد ـ تقسیمُ الکلمۃ: نااتفاقی، ان بن، نزاع، اختلاف رائے، پھوٹ، ناچاقی ـ اَعْلَی کلمتَہٗ: کا وقار بلند کرنا ـ عُلُو الکلمۃ والکلمۃُ العُلْیا: برتری، تفوق ـ قال کلمتَہ: اس نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اس نے اپنی بات کہدی ـ کلمۃُ اللّٰہ: خدا کا ارشاد، الہامی کتابیں ـ کلمۃُ المرور: شناختی لفظ، پہرے کا لفظ، (کسی پارٹی کا) نعرہ، قیدی کا نہ بھاگنے کا قول ـ الکلماتُ العَشر: شریعت موسوی میں دس خدائی احکام ـ احکام عشرہ ـ کلمۃ تمھیدیہ: تمہید، دیباچہ ـ کلمۃُ السِرّ و کَلِمُ السّر: قیدی کا نہ بھاگنے کا قول، پہرے کا لفظ، توثیقی دستخط ـ کلام: کہنا، بولنا، گفتگو، تقریر، زبان، انداز اظہار، اسلوب بیان، بات، بات چیت، بحث، مباحثہ، مناقشہ، قیل و قال، لفظ، الفاظ، قول، مقولہ، بیان، اظہار خیال، ضرب المثل، کہاوت، بولی، محاورہ، جملہ، فقرہ ـ بالکلام: زبانی ـ فتح فمہ بالکلام: کچھ کہنے کے لئے منہ کھولنا، کچھ کہنے کے لئے تیار ہونا ـ کلام فارغ: طفلانہ گفتگو، بیہودہ گفتگو، بے معنی بات ـ طریقۃ الکلام: بولنے کا انداز، بندش الفاظ ـ علمُ الکلام: علم کلام ـ کثیر الکلام: باتونی، بکواسی، بحر بحر ـ لغۃ الکلام: عام بول چال کی زبان، عامیہ بول چال، غیر ادبی زبان، روزمرہ کی بول چال ـ مُشادۃ کلامیۃ: لفظوں کی جنگ، بحث، لڑائی ـ کلامی: لفظوں یا بولی کا یا ان کے متعلق، زبانی، تعلیمی، مدرسی، دینیاتی ـ کَلِیم جمع کَلْمیٰ: زخمی ـ جمع کُلَماء: شخص مخاطب، بولنے والا، ترجمان، نمائندہ، (کسی کی طرف سے) بولنے والا ـ

کَلْمانی و کَلَمانی و کِلِّمانی: فصیح، خوش اسلوب، یا زبان میں روانی والا رداء سے بولنے والا ـ

تَکَلُّم: بولنا، کہنا، بات، گفتگو، بات چیت ـ تقریر ـ مُتَکَلِّم: بولنے والا، ترجمان، متکلم، عالم دین، ماہر دینیات، مسلم متکلم، علم کلام سے متعلق ـ

کلی: اکَلَی یَکْلِی کَلْیًا الرجلَ: کے گردے پر لگنا اور اسے تکلیف دینا صفت مفعولی مَکْلِیٌّ ـ کَلِیَ ـــ کَلًی: کے گردے پر لگنا اور تکلیف دہ ہونا ـ کُلِیَ: درد گردہ میں مبتلا ہونا ـ اِکْتَلَی: کے گردے پر لگنا ـ ہ: کے گردے پر مارنا ـ الکُلْوَۃُ ج کُلًی و کُلْوَاتٌ (ع ۱): گردہ ـ الکُلْیَۃُ ج کُلًی و کُلْیَاتٌ (ع ۱) اس کا تثنیہ کُلْیَیَیْن: گردہ ـ من القوس: کمان کے قبضہ سے تین بالشت ـ من السحاب: بادل کا نیچے کا حصہ ـ الکُلَی من الطیر: پرندہ کے بازو کے چار پر ـ کُلَی الوادی: وادی کے اطراف و جوانب، کہا جاتا ہے غَنَمٌ حمراءُ الکُلَی: دبلی پتلی بکریاں، اور کہا جاتا ہے لقیتہ بشحم کلاہ: میں نے اس سے آغاز جوانی اور ایام نشاط میں ملاقات کی ـ الکَلِیُّ: درد گردہ والا ـ

۲ کَلَّی تَکْلِیَۃً: چھپنے کی جگہ میں آنا ـ

۳ اِکْلَوْلَی اِکْلِیلَاءً: شکست کھانا ـ

۴ کِلَا و کِلْتَا: یہ دونوں اسم لفظاً مفرد اور معنیً مثنی ہیں اور کلا سے مذکر کی اور کلتا سے مونث کی تاکید ہوتی ہے ـ اور ہمیشہ ایسے کلمہ کی طرف اضافت ہوتی ہے جو معرفہ اور تثنیہ پر دلالت کرتا ہو اور جب اسم ظاہر کی طرف اضافت ہوتی ہے تو الف اپنی حالت پر باقی رہتا ہے اور اعراب تقدیری ہوتا ہے ـ جیسے أَتَتْ کِلَا الرَّجُلَیْنِ و کِلْتَا المَرْأَتَیْنِ اور جب ضمیر کی طرف اضافت ہو تو مثنی جیسا اعراب ہوتا ہے جیسے: جاءَ الرَّجُلَانِ کِلَاھُمَا ورأیتُ الرَّجُلَیْنِ کِلَیْھِمَا والمَرْأَتَیْنِ کِلْتَیْھِمَا: اور جب ضمیر ان کی طرف راجع ہو تو لفظ کی رعایت جائز ہے جیسے ـ کِلْتَا الجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَھَا: اور زیدٌ و عمرٌو کلاھما قائمٌ اور یہی افصح ہے اور رعایت معنی جائز ہے جیسے کلاھما قاما وزیدٌ وعمرٌو کلاھما قائمان: اور یہ کم ہے اور کِلَا ھُمَا مُحِبٌّ لصاحبہ: جیسی ترکیب میں رعایت لفظ متعین ہے اس لئے کہ معنی ـ کُلٌّ مِنْھُمَا کے ہیں ـ

۵ اَلاِکْلِیرُس: واحد کُلَیْرِیکِی ج اِکْلِیرِیکِیُّون: گرجا کے خادم جیسے شماسۃ و قسوس و اساقفہ (یونانی)

○ کُلْیَۃ و کُلْوَۃ جمع کُلًی و کلاوی: گردہ ـ کُلْوِی: گردوں کا یا گردوں سے متعلق ـ التھاب کُلْوِی: ورم گردہ ـ مغص کُلْوِی: درد گردہ ـ

○ کِلِیم جمع کُلْمۃ: گلیم، قالین، کمبل ـ

کم: اکَمَّ ـــ کَمًّا الشیءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا ـ البعیرَ: اونٹ کے منہ پر تھوتھنی چڑھانا ـ الناسُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا ـ کُمَّ کَمًّا و کُمُومًا ت النخلۃُ: کھجور کے درخت میں شگوفہ آنا صفت مَکْمُومٌ ـ

کَمَّمَ و اکَمَّ القمیصَ: کرتے میں آستین لگانا ـ ـــ ت النخلۃُ: کھجور کے درخت میں شگوفہ آنا ـ

تَکَمَّمَ بثیابہ: کپڑے اوڑھنا ـ ہ: کو بند کرنا، لپیٹنا ـ تُکُمِّمَ القومُ: مدہوش ہونا، ڈھانکا جانا ـ

الکُمُّ ج اَکْمَامٌ و کِمَمَۃٌ: آستین ـ الکِمُّ ج اَکِمَّۃٌ و اَکْمَامٌ و کِمَامٌ و اَکَامِیمُ: غلاف شگوفہ اس سے ہے اَکْمَامُ الزرع: کھیتی کا غلاف ـ اَکِمَّۃُ الخَیْلِ: واحد کِمَامٌ: توبڑہ ـ الکُمَّۃُ: گول ٹوپی، ڈھکنا ـ الکِمَامُ: تھوتھنی جس سے جانور کے منہ کو باندھ دیا جائے تا کہ وہ کھا اور کاٹ نہ سکے ـ الکِمَامَۃُ: توبڑہ، پھول کا غلاف، کھجور کے شگوفہ کا غلاف ـ المِکَمَّۃُ: تھوتھنی ـ المَکْمُومُ (مفع) من النخل: کھجور کا وہ درخت جس میں غلاف شگوفہ نکل آئے ـ

۲ کَمْ: کَمْ: کی دو قسمیں ہیں ـ (پہلی) استفہامیہ: یہ (کتنی تعداد) کے معنی دیتا ہے جیسے کَمْ دِرْھَمًا لَكَ: یعنی تمہارے کتنے درہم ہیں، کم استفہامیہ کا ممیز منصوب ہوتا ہے یہ کسی حال میں مجرور نہیں ہوتا ـ (دوسری) کم خبریہ: یہ کثرت کا معنی دیتا ہے جیسے کَمْ عَبْدٍ اَوْ کَمْ عَبِیدٍ مَلَکْتُ: میں بہت سے غلاموں کا مالک ہوں ـ کم خبریہ کا ممیز مِن کی تقدیر کے ساتھ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جب اسے کم سے جدا کر دیا جائے تو پھر یہ منصوب استعمال ہوتا ہے جیسے کَمْ لِی عَبْدًا ـ الکَمُّ و الکَمِّیَّۃُ: مقدار ـ الکَمِّیُّ مونث کَمِّیَّۃٌ: کَمْ کی طرف منسوب ـ

۳ کَمْکَمَ کَمْکَمَۃً الشیءَ: کو چھپانا ـ تَکَمْکَمَ: گول ٹوپی پہننا ـ فی ثیابہ: کپڑوں میں اپنے آپ کو ڈھانپنا ـ الکُمْکُمُ مونث کُمْکُمَۃٌ: پستہ قد ـ گٹھے جسم والا ـ

○ کَمْ: کم ولدًا لك: تمہارے کتنے بیٹے ہیں ـ بِکَمْ: کَمْ مَرَّۃً یا کَمْ مِن مَرَّۃٍ: کتنی دفعہ ـ کتنی بار ـ کَمْ بالحَرِیِّ؟: کس قدر زیادہ ـ بِکَمْ: کتنے میں ـ نظریۃ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الکَمّ: نظریہ مفادیرمعینہ، مقداری نظریہ۔ کَمِّیّ: کمیتی، کیت کا۔ کَمِیَّۃ جمع کَمِیَّۃ جمع کَمِیَّات: مقدار، کمیت، تعداد، شمار، گنتی۔

○ کَمَّ ۔ کَمًّا ہ: جانور پر چھینکا چڑھانا۔ کم فمۃ: کا منہ بند کرنا، کو خاموش کرنا۔ کَمَّمَ ہ: کی آواز کپڑا منہ ڈھ کر دبا دینا، کی زبان بندی کرنا۔ — ہ: بندوق وغیرہ کا منہ کیل ٹھونک کر بند کرنا۔ کِمّ جمع اَکمام و اَکِمَّۃ و کِمام و اکامیم: پھول کا کٹورا مندگل۔ کِمامَۃ جمع کِمامات و کَمائِم: چھینکا، منہ بند کرنے کا کپڑا، نقاب گیس ماسک (گیس نقاب) پھول کا کٹورا، مندگل۔

کمأ: ۱۔ کَمَأَ ۔ کَمْأً: کو سانپ کی چھتری کھلانا۔ کَمِئَ ۔ کَمَأً: پوشیدہ ہونا۔ — عن الاخبار: سے ناواقف ہونا، بے خبر ہونا۔ — ت یدُہٗ من البرد او العمل: ہاتھ کا سردی یا کام سے پھٹنا۔ اَکْمَأَ اِکْمَاءً المکانُ: جگہ کا بہت سانپ کی چھتری والا ہونا۔ — الرجلَ کو: سانپ کی چھتری کھلانا۔ تَکَمَّأَت علیہ الارضُ کو: زمین کا پوشیدہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ خَرَجَ النّاسُ یَتَکَمَّؤُوْنَ: یعنی لوگ سانپ کی چھتری چننے کے لئے نکلے۔ الکَمْءُ (مص) ج اَکْمُؤ و کَمْأۃ (ن): سانپ کی چھتری، اس کو شحم الارض بھی کہتے ہیں۔ الکَمّاءُ: سانپ کی چھتری بیچنے والا۔ سانپ کی چھتری بیچنے کے لئے چننے والا۔ المَکْمَأَۃ و المَکْمُؤَۃ: سانپ کی چھتری کی جگہ۔

۲۔ اَکْمَأَ اِکْمَاءً تِ السِّنُّ فلاناً: کو عمر کا بوڑھا کر دینا۔

۳۔ تَکَمَّأَ ہ: کو ناپسند کرنا۔

کمب: الکَمْبِیَالَۃ (ت): ہنڈی، ڈرافٹ الکَمْبِیُو (ت): ادلا بدلی، مبادلہ، مبادلہ زر، شرح مبادلہ۔

○ کَمْء جمع اَکْمُؤ: ایک کھمبی جس کی جڑیں کھانے میں ملائی جاتی ہیں۔ کلاہ باراں، ککرمتا، کھمبی، سانپ کی چھتری۔ کماۃ (جمع) کھمبیاں۔

○ کَمَان: وائلن۔ ولایتی سارنگی، چوتارہ، کمانجی: سارنگی نواز

○ کَمْب: کیمپ۔ کَمْبَرِیت: مہین سفید سوتی کپڑا یا رومال۔

کمت: ۱۔ کَمُتَ ۔ کُمْتًا و کَمَاتَۃً و کُمْتَۃً الفرسُ: گھوڑے کا کمیت ہونا۔ کَمَّتَ الثوبَ: کپڑے کو سیاہی مائل سرخ رنگنا۔ کُمِّتَ تکمیتات الخمرَ والفرسَ وغیرہما: شراب اور گھوڑے وغیرہ کو کمیت بنایا جانا۔ اَکْمَتَ و اِکْمَتَّ و اِکْمَاتَّ الفرسُ: گھوڑے کا کیت ہونا۔

الکُمْتَۃ: کیت رنگ۔ الکُمَیْتُ من الخیل ج کُمْتٌ (مذکر و مونث کے لئے) سرخ سیاہ رنگ والا گھوڑا اور یہ خلاف قیاس اَکْمَتْ کی تصغیر ہے۔ ایک شراب کا نام کیونکہ اس میں سیاہ اور سرخ رنگ پایا جاتا ہے کہا جاتا ہے۔ خَیْلٌ کُمَاتِیٌّ کمیت گھوڑے۔

۲۔ کَمَتَ ۔ کَمْتًا الغیظَ: غصہ کو دبانا۔

۳۔ الکُمَیْتَۃ: جڑ، اصل، کہا جاتا ہے۔ اَخَذَہٗ بِکُمَیْتَتِہٖ یعنی اس نے اس کو مع جڑ کے لے لیا۔

۴۔ کَمْتَرَ: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ — القربۃ: مشک کو بندھن سے باندھنا۔ — السقاءَ: مشک کو بھرنا۔ — القصیرُ: پستہ قد کا دوڑنا۔ الکُمْتُرُ و الکُمَاتِرُ: موٹا، پستہ قد، سخت مضبوط۔

○ کُمَیْت: سرخی مائل بھورا، بادامی قرمزی (رنگ)۔ (مذکر و مونث)

کمثر: کَمْثَرَ الشیئُ: جمع ہونا اور بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ الکُمَاثِرُ: پستہ قد الکُمَّثْرٰی واحد کُمَّثْرَاۃ (ن) ناشپاتی۔

کمج: الکَمَجُ (ع ا) بُن ران۔ الکُمَاجُ واحد کُمَاجَۃ: عام روٹی کی نسبت زیادہ موٹی گول۔

کمح: کَمَحَ ۔ کَمْحًا الدابۃَ: چوپایہ کو کھینچ کر ٹھہرانا۔ اَکْمَحَ الدابۃَ: چوپایہ کو کھینچ کر ٹھہرانا۔ — الکرمُ: پتے نکالنے کے قریب ہونا اور خوشہ انگور نکلنے کی جگہ ظاہر ہونا۔ اَکْمَحَ الرجلُ: متکبر ہونا۔

کمخ: ۱۔ کَمَخَ ۔ کَمْخًا بانفہ تکبر کرنا۔ — الفرسَ باللجام: گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ اَکْمَخَ الکرمُ: پتے نکالنے کے وقت خوشہ انگور نکلنے کی جگہ کا ظاہر ہونا۔ الکُمّاخُ: تکبر، بڑا بننا۔

۲۔ الکَامَخُ ج کَوَامِخُ: سالن، بعض نے اسے سرکہ کی چٹنی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ (فارسیہ)۔ الکَمْخَۃ: برتن وغیرہ پر جمی ہوئی میل (عامیہ فارسیہ یا ترکیہ)۔

کمد: ۱۔ کَمَدَ ۔ کَمْدًا و کُمُوْدًا القَصّارُ الثوبَ: دھوبی کا کپڑے کو کوٹنا اور اسم الکِمَادُ ہے۔ کَمِدَ ۔ کَمَدًا: بدلے ہوئے رنگ والا ہونا۔ — الرجلُ: غم سے بیمار دل والا ہونا صفت کَامِدٌ و کَمِدٌ و کَمِیْدٌ۔ — الثوبُ: پرانا ہونے کی وجہ سے بدلے ہوئے رنگ والا ہونا۔ اَکْمَدَ الہمُّ فلانًا: غمگین کرنا، اداس کرنا، دل کو بیمار کرنا۔ الکَمَدُ و الکَمْدُ و الکُمْدَۃُ: بدلا ہوا ہلکا، پھیکا، سیاہ یا صوفیانہ رنگ، افسردگی، دھندلا پن، سیاہ فامی، غم، سخت پریشانی۔ اَکْمَدُ اللون: بدلے ہوئے رنگ والا۔

۲۔ کَمَّدَ و اَکْمَدَ العضوَ: عضو کی ٹکور کرنا صفت مفعولی مَکْمُوْدٌ۔ الکِمَادُ: ٹکور کرنا، سینکنا۔ و الکِمَادَۃ: ٹکور کرنے کی پٹی

○ کَمْخا: ریشمی کپڑا، اطلس، بوٹے دار کپڑا۔

○ کَمِدَ ۔ کَمَدًا: غمگین ہونا، رنجیدہ، مغموم، بیمار دل والا ہونا۔ (رنگ کا) دودآلود، سیاہ، پھیکا، ہلکا یا صوفیانہ ہونا، رنگ بدل جانا، یا خراب ہو جانا۔ اِسْتَکْمَدَ: رنگ کا دودآلود، سیاہ، پھیکا، ہلکا یا صوفیانہ ہو جانا۔ کَمِد و کَمِید۔ غمگین، پریشان، دل کی بیماری میں مبتلا تاریک۔ اَکْمَد سیاہ رنگ کا، کالا، سیاہ فام۔ تَکْمِید: سینک، ٹکور۔ مُکَمِّد و مُکَمَّدَۃ جمع مُکَمَّدات: ٹکور کرنے کی پٹی۔

کمر: ۱۔ الکَمَرُ (ب): ہر وہ عمارت جس میں محراب یعنی ڈاٹ ہو جیسے پل وغیرہ (فارسیہ)

۲۔ کَمَّرَ ہ بالغطاء: کو چھپا لینا، ڈھانپ لینا تاکہ کچھ نظر نہ آئے (عامیہ) الکُمُّوْرُ: بالوں کا حصہ (فارسیہ)

۳۔ الکُمْرُکُ او الجُمْرُکُ (ت) کسٹم، کسٹم کلیرنس آفس، کہتے ہیں۔ کُمْرُکُ البِضَاعَۃِ وَبِضَاعَۃ مُکَمْرَکَۃ: کسٹم کا سامان۔ (فارسیہ اس کی عربی مکس ہے)۔

کمز: کَمَزَ ۔ کَمْزًا العجینَ ونحوَہٗ: گندھے ہوئے آٹے کو ہاتھوں سے گول بنانا۔ الکُمْزَۃ ج کُمَزٌ: کھجور وغیرہ کا گچھا، ریت یا مٹی کا ٹیلہ۔

کمس: ۱۔ کَمَسَ ۔ کُمُوْسًا: تیوری چڑھانا۔ الاَکْمَسُ: جو دیکھ نہ سکتا ہو۔

۲۔ الکِیْمُوْسُ (ک) معدی خرشہ (یونانیہ)

○ کَمَر جمع اَکْمار: بیلٹ کَمَرَ جمع کَمَرات: شہتیر، کڑی، کرین کا بازو جو چیزیں اٹھانے کے کام آتا ہے۔ کمرۃ حَمَّالَۃ اور کمرۃ تحمیل قضبان الونش: (چلتی کرین کا) پل، شہتیر، مَکْمُوْر: قیمہ اور سبزیوں سے تیار کیا ہوا کھانا۔

○ کُمْرُکی: کسٹم کا یا کسٹم سے متعلق، تاثی محصول کا یا تاثی محصول سے متعلق۔ (تاثی محصول ایسی درآمدات پر لگایا جاتا ہے جن سے ملک کی صنعت کی حفاظت مقصود ہو)۔

○ کُمْسَارِی جمع کمساریۃ: بسوں وغیرہ کا کنڈکٹر۔

کمش: ۱۔ کَمَشَ ۔ کَمْشًا الناقۃَ: اونٹنی کے تھن باندھنا تاکہ اس کا بچہ دودھ نہ پی سکے، عوامی زبان میں اسے کَمْشَہ کہتے ہیں۔ کَمَشَ مِنَ الشیئِ کَمْشَۃً اتنی چیز لینا جو ہاتھ میں آجائے۔ کَمُشَ ۔ کَمَاشَۃً تِ المرأۃ: عورت کا چھوٹے پستان والی ہونا۔ اَکْمَشَ بالناقۃ: اونٹنی کے پورے تھن کو باندھ دینا۔ تَکَمَّشَ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الجلدُ ونحوہ: سکڑنا۔ اِنکَمَشَ الثوبُ بعدالغسل: کپڑے کا دھلنے کے بعد سکڑنا، سمٹنا۔ ــ علی نفسہ: سکڑنا، منفرد ہونا۔ الکَمَشُ والکَمُوْشُ والکَمِشَۃُ والکَمِیْشَۃُ من الاناث: چھوٹے تھن یا پستان والی۔ الکَمَّاشَۃُ لوہار کا اوزار جسے ان کی زبان میں سنسی (سنسی) کہا جاتا ہے۔ الاَکْمَشُ ج کُمْشٌ: چھوٹے قدم والا۔

۲۔ کَمَشَ ــُ کَمْشًا الزادُ توشہ ختم ہونا ــ فلانا بالسیف: تلوار سے کسی کے اعضاء کو کاٹنا۔ الاَکْمَشُ مونث کَمْشَاءُ ج کُمْشٌ: جو نہ دیکھ سکتا ہو۔

۳۔ کَمِشَ ــَ کَمَشًا: پھرتیلا اور پکے ارادے والا۔ کَمُشَ ــُ کَمَاشَۃً: دلیر ہونا ــ و اِنکَمَشَ فی السیر و نحوہ: تیز چلنا۔ کَمَّشَ الحادی: حدی پڑھنے والے کا کوشش سے ہانکنا ــ فلانًا: سے جلدی کرانا ــ ذیلہٗ: کا دامن سمیٹنا۔ تَکَمَّشَ و اِنکَمَشَ الرجلُ: دوڑنا۔ الکَمْشُ والکَمِشُ والکَمِیْشُ من الرجال: پھرتیلا، پکے ارادے والا، عربوں کی مثال ہے، کَمِیْشُ الازار: ازار سمیٹنے والا یعنی پھرتیلا۔

○ کَمَشَ ــُ کَمْشًا ہ کو مضبوطی سے پکڑنا، پکڑنا، گرفت میں لینا۔ تَکَمَّشَ: جھریوں دار ہو جانا، شکن پڑنا، سکڑنا، سمٹنا، سکڑتے رہنا، دبک کر پیچھے ہٹنا۔ اِنکَمَشَ: جھریوں دار ہونا، شکن پڑنا، سکڑنا، سمٹنا، کسنا، مقید ہونا، محدود ہونا، دبک کر پیچھے ہٹنا، اپنے آپ میں منہمک یا مشغول ہو جانا۔ و علی نفسہ: اپنے خیالات مجتمع کرنا، اپنی طاقت مجتمع کرنا۔ کُمْشَۃ: مٹھی بھر، کَمِش و کَمِیش: ماہر، کاریگر، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، کَمِیشُ الازار: بمعنی بالا (نیز) سرگرم، چست، پھرتیلا، محنتی، مستعدی سے کام کرنے والا، کارکن، لائق، قابل، اِنکماش: مشغولیت، دھن، انہماک، استغراق، محویت، اپنے آپ میں مشغولیت، مُنکَمِش: سکڑا ہوا، اینٹھا ہوا، رگ چڑھا، مضبوطی سے پکڑا ہوا، اکڑا ہوا، منہمک۔ مشغول، کم آمیز، اپنے آپ میں مگن۔

کمع: ۱۔ کَمَعَ ــَ کَمْعًا فی الاناء: برتن میں منہ لگا کر پینا ــ فی الماء: پانی میں اترنا۔ اِکْتَمَعَ الاناءَ: برتن میں منہ لگا کر پینا۔

۲۔ کَمَعَ ــَ کَمْعًا قوائمَ الدابّۃِ: چوپایہ کی ٹانگیں کاٹنا ــ ت الدابّۃُ: آہستہ چلنا۔ الکَمْعُ: ران کی گرہ۔

۳۔ کَامَعَ ہٗ کو اپنے ساتھ ملانا، سے ہم بستری کرنا۔ الکِمْعُ: قبا، پست زمین، وادی کا گوشہ، اترنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ فِیْ کِمْعِہٖ یعنی فلاں اپنے گھر اور اپنی جگہ میں ہے۔ و الکَمِیْعُ: ہم بستری کرنے والا۔ المُکَامِعُ (فا): آپ کے قریب جس سے کوئی بات پوشیدہ نہ رہے۔

○ کَامَعَہٗ: کے ساتھ سونا، کو آغوش میں لینا، سے بغلگیر ہونا، کے ساتھ جنسی میل جول رکھنا، سے مباشرت کرنا۔ کَمِیع: ہمبستر، ساتھی۔

کمل: ۱۔ کَمَلَ ــُ و کَمُلَ ــُ و کَمِلَ ــَ کَمَالًا و کُمُوْلًا و تَکَمَّلَ و تَکَامَلَ و اِکْتَمَلَ: پورا ہونا، کامل ہونا۔ کَمَّلَ و اَکْمَلَ الشَیْئَ: کو پورا کرنا ــ و اِسْتَکْمَلَ الشَیْئَ: کو پورا کرنا۔ الکَامِلُ (فا) ج کَمَلَۃٌ: جس کے اجزاء پورے ہوں جس کی صفات پوری ہوں، ناقص کی ضد، علم عروض کی ایک بحر کا نام ہے، جس میں چھ مرتبہ مُتَفَاعِلُنْ آتا ہے۔ الکَمَلُ: کامل، پورا، کہا جاتا ہے۔ اَعْطَیْتُہُ المَالَ کَمَلًا: میں نے اس کو پورا مال دیا، یہ لفظ واحد اور جمع میں برابر ہے اور یہ نہ تو مصدر ہے اور نہ صفت اور یہ تمہارے قول۔ اَعْطَیْتُہُ المالَ کُلَّہٗ: جیسا ہے۔ الکَمَالُ (مص): اسم مصدر ہے کہا جاتا ہے، لَکَ کَمَالُ الشَیْئِ: یعنی یہ ساری چیز تمہاری ہے۔ الکَمِیْلُ: پورا، کامل۔ تَکْمِلَۃُ الشَیْئِ: جس سے کوئی چیز پوری کی جائے۔ المِکْمَلُ: خیر یا شر میں کامل مرد۔

۲۔ الکَامِیْلِیَا (ن) ایک سدابہار پودا گہوارہ استوائی ایشیا اور انڈونیشیا پتے چمکدار، پھول بڑے بڑے گلابی اور سرخ رنگ کے گرم ممالک اور بحر ابیض متوسط کے علاقوں میں تزئین و آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔

○ کَمَلَ و کَمُلَ ــُ و کَمِلَ ــَ کَمَالًا و کمولًا: پورا ہونا یا ہو جانا، کامل ہونا، ختم ہونا، مکمل ہو جانا، انجام پذیر ہونا۔ کَمَّلَ و اَکْمَلَ ہ کو ختم کرنا، مکمل کرنا، پایہ تکمیل کو پہنچانا، بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا ــ کے نقائص دور کرنا، میں اضافہ کرنا، کو بڑھانا۔ تَکَامَلَ و اِکْتَمَلَ: پورا ہونا، کامل ہونا، تمام ہونا، مکمل ہونا، یا ہو جانا، ختم ہونا یا ہو جانا، بجالایا جانا، انجام کو پہنچنا، تکمیل کو پہنچنا، کمال کو پہنچنا، پختہ ہونا۔ اِسْتَکْمَلَ ہ کو مکمل کرنا، پورا کرنا ــ ہ میں اضافہ کرنا، کو بڑھانا ــ ہ شرط وغیرہ پوری کرنا، کَمَال جمع کَمَالات: کمال، اعلیٰ درجہ کی خوبی، تکمیل، اختتام، اتمام، انجام، پختگی، انتہاء، بِکَمَالِہٖ: مکمل طور پر، پوری طرح، سراسر، بالکل۔ کَمَالِی: پر تکلف، انتہائی آرام دہ، اعلیٰ خوبی والا، کَمَالِیات: تکلفات کَمَالَۃ: اضافہ، تکملہ، ضمیمہ، اَکْمَل: زیادہ مکمل، زیادہ کامل، لندن بأکملها: پورا لندن۔ تَکْمِیْلِی: مکمل کرنے والا، ضمنی، انتخاب تکمیلی: ضمنی انتخاب۔ تَکْمِلَۃ: ضمیمہ، تکملہ۔ تَکَامُل: انضمام، ادغام، ملا کر وحدت بنا دینا، حساب التکامل: حساب کلیات (IntegralCalculus) کامِل جمع کَمَلَۃ: پورا، کامل، پکا، اصلی، خالص، کھرا، بے میل، پورے وزن کا، غیر محدود، پوری طاقت کا، مکمل، انجام کو پہنچا ہوا، ختم کیا ہوا، سب، سارا، تمام، جملہ، پورا کا پورا، سب کا سب، کل بِکَامِلِہٖ: تمام تر، یکسر، سب ملا کر، کل، بالکل، سراسر، پوری طرح، سارا مُتَکَامِل: پورا، کامل، پورے کا پورا، کلی۔

کمن: ۱۔ کَمَنَ ــُ کُمُوْنًا: چھپنا، سمجھ میں نہ آنے والے کام میں دخل دینا۔ کَمِنَ ــَ کُمُوْنًا: چھپنا، سمجھ میں نہ آنے والے کام میں دخل اندازی کرنا، کی آنکھ میں تاریکی ہونا ــ ت عینُہٗ: کی آنکھ کا تاریکی والی یا پلکوں میں ورم والی ہونا۔ کَمِنَ کُمُوْنًا آنکھ کا تاریکی یا پلکوں میں ورم والی ہونا ــ ت عینُہٗ: کی آنکھ کا تاریکی یا پلکوں میں ورم والی ہونا۔ اَکْمَنَ الشیئَ: کو چھپانا۔ تَکَمَّنَ و اِکْتَمَنَ: چھپنا۔ الکُمْنَۃُ: آنکھ کی تاریکی یا پلکوں میں ورم، ایک بیماری جس سے آنکھ کی پلکیں سرخ ہو جاتی ہے۔ الکَمِیْنُ: گھات، مورچہ ــ ج کُمَنَاءُ: بغیر سمجھے بوجھے کام میں دخل دینے والا، کہا جاتا ہے۔ ھٰذَا اَمْرٌ فِیْہِ کَمِیْنٌ: اس معاملہ میں ایسا فساد ہے جو نا قابل سمجھ ہے۔ المَکْمَنُ ج مَکَامِنُ: چھپنے کی جگہ۔ المُکْتَمِنُ: غمگین۔

۲۔ الکَمُّوْنُ واحد کَمُّوْنَۃٌ (ن) زیرہ، (عبرانیہ)۔ الکَمُّوْنُ الحُلْوُ: سونف، بادیان۔

۳۔ الکَمَنْجَۃ (مو) دوتارہ، سارنگی (فارسیہ)۔

○ کَمَنَ ــُ و کَمِنَ ــَ کُمُوْنًا: چھپنا، چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ، پنہاں، دبا ہوا، یا خوابیدہ ہونا ــ فی: میں کمین گاہ رکھنا ــ ل: کی گھات لگانا، کی گھات میں بیٹھنا، کو راستہ میں روکنا، کی رہزنی کرنا۔ تَکَمَّنَ ل: بمعنی کمن ل: کُمُّون: زیرہ۔ کمّون اسود: کالا زیرہ۔ کمون برّی: کالا زیرہ۔ کمون حُلْو: سونف، بادیان، تخم بادیان۔ کَمِیْن جمع کُمَنَاء: پوشیدہ، چھپا ہوا، گھات میں بیٹھا ہوا، کمین گاہ، خفیہ حملہ۔ دبّر کمینًا: خفیہ منصوبہ بنانا۔ نصب لہ کمینًا: کے لئے جال بچھانا۔ مَکْمَن جمع مَکَامِن: جگہ جہاں کچھ چھپایا گیا ہو، کمین گاہ، چھپنے کی جگہ ھنا مَکْمَنُ السِّرّ: یہی وہ جگہ ہے جہاں راز پنہاں ہے۔

marfat.com
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

کـــامِــن: چھپا ہوا، پنہاں، دبا ہوا، خوابیدہ، خفیہ جمع کَـوَامِــن: پوشیدہ پس منظر، پنہاں گہرائیاں، بنیادی عوامل۔

کمہ: ۱۔ کَـمِـهَ ـَ کَمَهًا: اندھا ہونا، توندی والا ہونا۔ ـــ بصرُهُ: تاریک ہونا اور بینائی کو ناپید کرنا۔ النھارُ: دن کا غبار والا ہونا۔ الرجُلُ کا رنگ بدلا ہوا ہونا۔ کی عقل زائل ہونا تمام معانی میں صفت اَکْـمَــهُ مونث کَمْهَاءُ ج کُمْهٌ۔ تَـکَمَّهَ فی الارض: زمین میں حیران پھرنا صفت کَامِهٌ و مُتَکَمِّهٌ: الاَکْمَهُ: اندھا، مادرزاد اندھا، کہا جاتا ہے۔ ذھبت اِبِلُهُ کُمَّیْهَی: یعنی نہیں معلوم کہ اس کے اونٹ کہاں گئے۔ مُکَمَّهُ العَیْنَیْنِ: جس کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔

۲۔ کَـمْهَـلَ الرجُلُ: کپڑوں کو جمع کرنا اور سفر کے لئے باندھنا۔ ـ المالَ: مال جمع کرنا۔ تکَمْهَلَ الشیئُ: جمع ہونا۔ اِکْمَهَلَّ الرجُلُ: سمٹ کر بیٹھنا، سردی سے سکڑنا۔

۳۔ کَمْهَلَ علینا (ہمارا) حق روکنا۔ الحدیثَ کو پوشیدہ کرنا، معمہ جیسا کرنا۔

○ کَـمَـه: (پیدائشی) اندھاپن۔ أَکْـمَـه م کُمْهاء جمع کُمْه: اندھا، پیدائشی اندھا۔

کمی: ۱۔ کَمٰی یَکْمِی کَمْیًا شھادتَهُ وغیرَھا کو چھپانا۔ و کَمَّی نفسَهُ: زرہ اور خود سے اپنے آپ کو چھپانا۔ اَکْـمَـی شـهـادتَـهُ وغیـرَهـا کو چھپانا۔ ـــ المحاربُ: جنگجو کا لشکر کے زرہ پوش کو قتل کرنا۔ ـــ الرجُلُ منزلَهُ: مکان کو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنا۔ تکَمَّی الشیئُ: چھپنا۔ ـ الشیئَ: کی حفاظت کرنا اور اسے چھپانا۔ ـــ ت الفتنةُ الناسَ: فتنہ کا لوگوں کو گھیر لینا۔ تُکُمِّیَ الجیشُ: لشکر کے دلاور یا زرہ پوش کا قتل کیا جانا۔ القومُ: مدہوش ہونا، گھیر لیا جانا۔ اِنکَمٰی: پوشیدہ ہونا۔ اِکْتَمَی اِکْتِمَاءً: چھپنا۔ الکَمِیُّ ج کُمَاةٌ و اَکْمَاةٌ: بہادر، ہتھیار بند، زرہ پوش، بھید کا محافظ۔ المُتَکَمِّی: ہتھیار بند۔

۲۔ اَکْمَی علی الامر کا پکا ارادہ کرنا۔

○ کَمْیُون جمع کمیونات: ٹرک، لاری۔

کنّ: ۱۔ کَنَّ ـُ کَنًّا و کُنُونًا الشیئَ: کو گھر میں چھپانا اور دھوپ سے بچانا۔ ـــ العلمَ وغیرَهُ فی نفسه: کو دل میں چھپانا۔ فی اصطلاح العامة ٹھہر جانا، کہتے ہیں۔ کَنَّتِ الرِّیحُ: ہوا تھم گئی۔ کَنَّنَ و اَکَنَّ الشیئَ: کو گھر میں چھپانا۔ اور دھوپ سے بچانا۔ ـــ العلمَ وغیرَهُ فی نفسه: کو دل میں چھپانا۔ تَکَنّٰی تکنِّیًا: ہمیشہ گھر میں رہنا اس کی اصل تَکَنَّنَ ہے۔ اِکْتَنَّ الرجُلُ چھپنا۔ ـ الشیئَ کو چھپانا۔ ـ ت المرأةُ: عورت کا شرم وحیاء سے منہ چھپانا۔ اِسْتَکَنَّ: چھپنا گھر کی طرف لوٹنا۔ الکِنُّ ج اَکْنَانٌ و اَکِنَّةٌ: گھر، منزل، چیز کی حفاظت اور پوشیدگی۔ الکَنَّةُ ج کَنَائِنُ۔ کَنَّ کا اسم مرہ الکِنَّةُ چیز کی حفاظت اور پوشیدگی۔ الکُنَّةُ ج کُنَّاتٌ و کِنَانٌ: الکَنی الکُنی، کوٹھڑی کے اندر چھوٹی کوٹھڑی، ڈھلوان چھت، سایہ بان، دیوار میں لگا ہوا تختہ۔ الکِنَانُ جمع اَکِنَّة: چیز کو چھپانا اور اس کی حفاظت کرنا۔ الکِنانة ج کَنَائِنُ و کِنَانَاتٌ: ترکش، تیردان۔ الکَانُونُ والکَانُونَةَ: وہ بھاری بھرکم شخص جس کی صحبت سے پرہیز کیا جائے، وہ شخص جو بیٹھ کر اخبار و واقعات کا پتہ لگائے۔ ـ ج کَوَانِینُ: انگیٹھی۔ ـ کَانُونُ الاَوَّلُ و کَانُونُ الثَّانِی: رومی مہینے مطابق دسمبر وجنوری، بعض کے نزدیک، یہ رومی نہیں بلکہ سریانی ہیں اور اس سے مراد موسم سرما ہے اور بعض کے بقول یہ عربی الفاظ ماخوذ ہیں سخت سردی کے اور اس میں نقل وحرکت کی مشکل کا معنی دیتے ہیں۔ الکَنِینُ چھپا ہوا۔ المُسْتَکِنَّةُ: کینہ۔

۲۔ اکْتَنَّ الشیئُ سفید ہونا۔ الکِنَّةُ سفیدی۔

۳۔ الکَنَّةُ ج کَنَائِنُ: بہو یا بھاوج۔

۴۔ کَنْکَنَ گھر میں بیٹھنا، ست ہونا، بھاگنا۔

○ کَنَّ ہ کو چھپانا، مخفی رکھنا، ڈھانپا، بچانا، ـــ ہ ل کیلئے دل میں (دوستی) کو جگہ دینا۔ ـــــ: ہوا کا مدہم پڑنا۔ تھمنا۔ کَنَّنَ ہ کو چھپانا، مخفی رکھنا، صیغہ، راز میں رکھنا، کو کم کرنا، ہلکا کرنا، اَکَنَّ ہ بمعنی کَنَّن ہ اِکْتَنَّ: چھپا ہونا، چھپایا ہوا ہونا۔ اِسْتَکَنَّ چھپا ہونا، پناہ طلب کرنا، آرام سے لیٹنا، مدھم ہونا، تھمنا۔ کَنّ و کِنّ جمع اَکْنَان و اَکِنَّة: جگہ جہاں کوئی پناہ لئے ہوئے ہو، پناہ، گھونسلا، گھر، مکان، جھونپڑا، کنج، حجلہ۔ کِنَّة: پناہ گاہ، اوٹ، کُنَّة جمع کُنَّات و کِنَان: سائبان، شامیانہ، ڈھلوان چھت۔ کِنانة جمع کِنَانات و کَنَائِن: ترکش۔ ارض کِنَّانَة و الکِنَّانَة: مصر (کنانہ قبیلہ کی سرزمین) کَانُون جمع کَوانین: ولایتی، چولہا، سٹوو (Stove) کانون الاول: دسمبر (مہینہ) کانون الثانی: جنوری۔ کَنِین: چھپا ہوا، پوشیدہ، اچھی طرح محفوظ کیا ہوا۔ مَکْنُون: چھپا ہوا، پوشیدہ، اچھی طرح محفوظ، پوشیدہ محتویات۔

○ کَنَار: کنارہ، پیچے کا کنارہ، بارڈر، کنارا، گوٹ، مغرہ، سنجاف، کنی، کَنَارِی: کناری (جزائر کنیری کی زرد بلبل)۔

کنب: ۱۔ کَنَبَ ـ کُنُوبًا الرجُلُ: سخت ہونا، فقیری کے بعد مالدار ہونا۔ کَنَبَ ـِ کَنْبًا الشیئَ فی جرابه: کو میں جمع کرنا، ذخیرہ کرنا۔

کَنِبَ ـ کَنَبًا تِ الیدُ: ہاتھ کا کام کرنے سے سخت ہونا۔ اَکْنَبَ الشیئُ و الیدُ: سخت ہونا۔ ـ علیه بطنُهُ کا پیٹ سخت ہونا۔ علیه لسانُهُ کی زبان رکنا۔ الکَانِبُ (فا): شکم سیر۔ الکَنَبُ (مص): کام کرنے سے ہاتھ کی سختی۔ الکِنَابُ خوشہ خرما۔ الکَنِبُ خشک درخت۔ المِکْنَبُ و المُکْنِبُ کھودنے والا جس کے ہاتھ عمل کی وجہ سے سخت ہوگئے ہوں۔ المُکْنَبُ: سخت بدن والا، پستہ قد۔

۲۔ الکُنَبَّةُ ظالم خبیث۔

۳۔ کَنْبَثَ و تَکَنْبَثَ الرجُلُ سکڑنا۔ رَجُلٌ کُنْبُثٌ و کُنَابِثٌ: مضبوط وقوی مرد، گھٹے بدن کا مرد۔ الکُنْبَاثُ (ن): ایک پودے کا نام الکِنْبَاثُ: گرنے والی ریت۔

۴۔ الکِنْبَرَةُ ناک کا موٹا سرا۔

۵۔ تَکَنْبَشَ القومُ خلط ملط ہونا۔ الکَنْبُوشُ و الکُنْبُوشُ ج کَنَابِیشُ: عرق گیر (فارسیہ) منہ چھپانے کا برقعہ (فارسیہ)

کنت: ۱۔ کَنَتَ ـُ کُنْتًا ـ فی خَلْقِه: جسمانی طور پر مضبوط ہونا، قوی ہونا۔ کَنِتَ ـ کَنَتًا السقاءُ: مشک کا کمزور اور سخت ہونا۔ سِقَاء کَنِیتٌ: پانی روکنے والی مشک جس میں سے پانی نہ ٹپکے۔ الکُنْتِیُّ: قوی مضبوط۔

۲۔ اِکْتَنَتَ الرجُلُ خضوع کرنا، راضی ہونا۔

۳۔ الکُونت یورپ کے ممالک کا نواب یا راجہ لاطینی لفظ ہے۔ عرب انہیں قُمْط و کُنْد و قُمَّس و قَوْمس کہتے تھے۔

۴۔ الکُنْتَرَاتُو ج کُنْتَرَاتَاتٌ: دو فریقوں کے درمیان کسی معاملے پر مشروط معاہدہ۔ ایسے معاہدہ کی دستاویز (ایطالیہ)۔

کنث: کَنِثَ کَنَثَاةً تِ اللّحیةُ: داڑھی طویل اور گھنی ہونا۔ رَجُلٌ کَنِثُ اللحیة و کَنْثَاهَا: لمبی داڑھی والا مرد۔

کند: ۱۔ کَنَدَ ـُ کُنُودًا النعمةَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ الکُنُدُ (مذکر ومونث) ناشکرا۔ الکَنَّادُ ناشکرا۔ الکَنُودُ (مذکر ومونث) ناشکرا، نافرمان، خدا کو ملامت کرنے والا، نعمتوں کو بھولنے اور مصائب کو یاد کرنے والا، بخیل۔ ارْضٌ کَنُودٌ: بنجر زمین۔

۲۔ کَنَدَ ـُ کَنْدًا الشیئَ کو کاٹنا۔ الکِنْدَةُ پہاڑ کا ایک

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ٹکڑا۔ الکَنَّادُ: بہت کاٹنے والا۔

۳۔ الکُنْدُرُ (ن): ایک خاردار درخت کا گوند، مضبوط بناوٹ والا، جمع کی صورت میں کہا جاتا ہے۔ فِتْیَانٌ کَنَادِرَۃٌ: مضبوط بناوٹ کے نوجوان۔ الکَنْدُرَۃُ: باز کے بیٹھنے کی جگہ، سخت واونچی زمین۔ الکُنْدُرَۃُ: عورتوں کی جوتیوں کی ایک قسم (عامیہ ترکیہ)۔ الکُنْدُوْرُ (ح): جنوبی امریکا میں گدھ کی ایک قسم جس کا جسم بہت مضبوط اور بڑا ہوتا ہے۔ اسے فضا میں سب سے زیادہ پرواز کرنے والا پرندہ سمجھا جاتا ہے۔

کنر: الکُنَارُ: بیر (فارسیہ)۔ الکَنَارُ: (عامی فارسیہ) کپڑے کا کنارا، سمندر کا کنارا، ہر شیی کا محیط۔ الکَنَارِیُّ (ح) جزائر خالدات یا جزائر کناریا کی ایک خوش الحان چڑیا زردی مائل رنگ کی اس چڑیا کے اگلے پر لمبے ہوتے ہیں۔ الکَنَارَۃ: کتان کے کپڑے کا ایک ٹکڑا (یونانیہ) — و الکِنَارَۃُ ج کَنَانِیْر اور کِنَارات: بربط، ڈھول یا دف۔

○ کَنَب: جلد کی سختی کَنِب و مُکْنِب: سخت (کھال)

○ کَنَبہ یا کَنَبَیہ جمع کنبہات: صوفہ (Sofa)

○ الکُنْج: کونگو (ایک ملک کا نام)

○ کَنْجَرُو: کنگرو، مضبوط دم اور پچھلی ٹانگوں کا Kangaroo آسٹریلیا کا ایک بڑا جانور جو چھلانگتا ہوا چلتا ہے۔

○ کُنُود: ناسپاسی، ناشکرگزاری، احسان فراموشی، بے دفائی، نمک حرامی۔

○ کَنَدا: کینڈا (ایک ملک کا نام) کَنَدِی: کنڈا کا، کنیڈی۔

○ کُنْدُر: لوبان۔ کُنْدُرَۃ جمع کَنَادِر: (مغربی طرز کا) پاپوش۔

○ کُنْدُش: نیل کنٹھ کی قسم کا ایک یورپی پرندہ جو خوب بولتا ہے، بکواسی آدمی۔

کنز: کَنَزَ ـِ کَنْزًا المالَ: کو جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، زمین میں دفن کرنا۔ — الرمحَ: نیزہ کو زمین میں گاڑنا۔ — الشیئَ فی وعاءٍ او ارض: کو برتن یا زمین میں ہاتھ سے دبانا۔ السقاءَ: مشک بھرنا — کَنَازًا و کِنَازًا التمرَ: کھجور کو موسم سرما کے لئے ذخیرہ کر کے رکھنا۔ تَکَنَّزَ لحمُہُ: کے گوشت کا اکٹھا ہونا اور سخت ہونا۔ اِکْتَنَزَ: بھرنا، جمع ہونا۔ — اللحمُ: جمع ہونا، سخت ہونا۔ — الشیئ فی الوعاءِ: کو برتن میں ہاتھ سے دبانا۔ الکَنْزُ ج کُنُوْزٌ (مص): ہر ذخیرہ کی ہوئی قابل رشک چیز، زمین میں دفن کیا ہوا مال، جس میں مال محفوظ رکھا جائے مثلاً صندوق الماری وغیرہ کہا جاتا ہے۔ شَدَّ کنزَ القِربۃ یعنی مشک کو بھر دیا۔ رجل کَنِزُ اللحم: بہت اور سخت گوشت والا۔ الکَنَازُ: کھجور یا گندم ذخیرہ کرنے کا وقت۔ الکِنَازُ ج کُنُزٌ و کِنَازٌ: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا، کہا جاتا ہے۔ جاریۃ او ناقۃ کناز: بہت اور ٹھوس گوشت والی لونڈی یا اونٹنی۔ الکَنَّازُ: مال کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الکَنِیْزُ: کھجوریں جو سردی کے زمانہ کے لئے جمع کی جائیں کہا جاتا ہے۔ رجل کنیز اللحم: سخت اور بہت گوشت والا مرد۔ المَکْنَزُ ج مَکَانِزُ: جس میں ذخیرہ (جمع) کیا جائے۔ رَجُلٌ مکنوزُ اللحم: ٹھوس اور بہت گوشت والا۔ رجل مُکْتَنِزُ اللحم: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا کہا جاتا ہے۔ کتابٌ مُکْتَنَزٌ بالفوائد: معلومات سے لبریز کتاب

○ کَنَزَ ـِ کنزاً فی الارض ہ: زمین میں (خزانہ) دفن کرنا۔ — ہ: کوئی چیز ذخیرہ کرنا، سینت سینت کر رکھنا، کا ڈھیر لگانا، کو بچا کر رکھنا، جمع کرنا۔ اِکْتَنَزَ: مضبوط ہونا، کسا ہوا ہونا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا، قوی ہیکل ہونا، لمبا تڑنگا ہونا۔ — ہ: روپیہ پیسہ جمع کرنا، دولت جمع کرنا، خزانہ جمع کرنا، (دولت، خزانہ) چھپانا۔ کَنْز جمع کُنُوز: خزانہ۔ کَنِز: مضبوط، کسا ہوا (گوشت)، موٹا تازہ، ہٹا کٹا، قوی ہیکل، لمبا تڑنگا (جسم)۔ اِکْتِنَاز: جسم کا کسا ہوا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا ہونا، سخت اور کسی ہوئی کاٹھی۔ مُکْتَنِز: سخت، کسا ہوا (گوشت)، ہٹا کٹا (جسم)، بھینچے ہوئے (ہونٹ)، مضبوط، چوڑا چکلا۔ مُکْتَنَز: انبار لگا، جمع کیا ہوا، چھپایا ہوا، دفن کیا ہوا۔

کنس: ا۔ کَنَسَ ـُ کَنْسًا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا کہا جاتا ہے۔ کَنَسَ فی وجہِ فلانٍ: اس نے فلاں سے مذاق کیا۔

کَنَسَ ـِ کُنُوْسًا الظبیُ: ہرن کا جائے پناہ میں داخل ہو کر چھپ جانا۔ کَنَّسَ البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا، کہا جاتا ہے۔ (مَرُّوْا بہم فکنسوہم: وہ انکے پاس سے گزرے اور ان کی جڑ مٹا دی۔ تَکَنَّسَ الظبیُ: ہرن کا جائے پناہ میں داخل ہو کر چھپ جانا۔ — الرجُلُ: خیمہ میں داخل ہونا۔ ـ ت المراَۃُ: عورت کا ہودہ میں داخل ہونا۔ اِکْتَنَسَ تِ الظباءُ والبقرُ: ہرنیوں یا گائیوں کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔ الکَانِسُ (فا) ج کُنَّسٌ و کُنُوْسٌ و کَوَانِسُ: ہرن جو اپنی پناہ گاہ میں داخل ہو۔ الجواری الکُنَّس: ستارے یا نیل گائیں یا ہرنیاں۔ الکِنَاسُ ج اَکْنِسَۃٌ و کُنُسٌ: ہرن کے پناہ لینے کی جگہ۔ الکُنَاسَۃُ: کوڑا کرکٹ، کوڑا کرکٹ کی جگہ۔ الکَنَّاسُ: بھنگی، جھاڑو دینے والا۔ الکَنِیْسُ: تو بڑا۔ المَکْنَسُ: ہرنیوں یا وحشی گائیوں کے گرمی سے بچنے کے لئے چھپنے کی جگہ۔ المِکْنَسَۃُ ج مَکَانِسُ: جھاڑو۔ المُکَانِسُ: ہمیشہ پناہ گاہ میں رہنے والا۔

۲۔ الکَنِیْسُ: یہودیوں کی عبادت گاہ۔ الکَنِیسۃُ ج کَنَائِسُ عند النصاریٰ: گرجا، اور نصاریٰ اپنے مذہب کے مومنین پر بھی بولتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ۔

○ الکَنَسَۃ: امام شافعیؒ کے مقبرہ میں علماء کی حاضری جہاں وہ گرد وغبار جھاڑتے ہیں۔ کَنِیْس: یہودی معبد کَنِیسَۃ جمع کَنَائِس: گرجا، یہودیوں کی اپنی مجلس، یہودی معبد مِکْنَسَۃ جمع مَکَانِس: جھاڑو، جھاڑو دینے والی مشین۔ مِکْنَسَۃ کَہْرَبائیۃ: گرد کش۔

○ مِکْنَاس و مِکناسَۃ: شمالی مراکش کے ایک شہر کا نام

کنش: کَنَشَ ـُ کَنْشًا الثوبَ: کپڑے کے کنارے بٹنا، المسواکَ الخشن: مسواک کا سرا نرم کرنا۔

۲۔ اَکْنَشَہُ عن الامر: نے کام میں جلدی کرانا۔

۳۔ الکُنَّاشَۃُ: بیاض جس میں مفید اور نادر باتیں لکھ لی جائیں۔ الکُنَاشَاتُ بواحد کُنَاشَۃ: جڑیں جن سے شاخیں پھوٹیں۔ الکِنْشَاء من الرجال: چھوٹے چھوٹے گھنگھریالے بالوں والا بدصورت مرد۔

○ کُنَّاش و کُنَّاشۃ: تراشے لگانے کی کاپی کُنَّاشات: بنیادی اصول، سرچشمے۔

کنص: کَنَّصَ: مذاق سے ناک کو حرکت دینا۔ الکُنَاصُ: قوی اونٹ گدھے وغیرہ۔

○ کُنْصول جمع کُنْصولات: برقی یا مکینیکل ساز و سامان کے سوچوں، کنٹرولوں وغیرہ کے لئے منقش تختہ ۲۔ فرش پر رکھنے کا ریڈیو یا ٹیلیویژن کا کیبنٹ۔ ۳ کی بورڈ پر مشتمل فریم۔

○ کَنْغَر: کنگرو: اگلی چھوٹی اور پچھلی لمبی ٹانگوں والا آسٹریلیا کا ایک جانور۔

کنظ: کَنَظَ ـِ کَنْظًا و تکَنَّظَ الامرُ فلانا: کو غمگین کرنا۔ الکُنْظَۃ: غم، دباؤ۔

کنع: ا۔ کَنَعَ ـَ کُنُوْعًا: سمٹنا، ملنا — ت العُقابُ: عقاب کا حملہ کرنے کیلئے بازوؤں کو سمیٹنا۔ — اصابعَہُ: انگلیوں کو مار کر خشک کرنا۔ — الامرُ: قریب ہونا۔ النجمُ: ستارے کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ — المسکُ بالثوب: مشک کا کپڑے سے چپکنا۔ — الیہ: سے فروتنی کرنا اور نرم ہونا۔ کَنِعَ ـَ کَنَعًا خشک

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونا، سکڑنا صفت کَنِعٌ ۔ الرجُلُ: پچھاڑا جانا۔ ۔۔۔ الشیئُ: لازم ہونا اور ہمیشہ رہنا۔ کَنَّعَ الشیئَ کو سکیڑنا، ملانا۔ یدَہُ: کا ہاتھ خشک کرنا اور شل کرنا۔ ۔فلانا بالسیف: کے بند دست پر تلوار مارنا۔ اَکْنَعَ: فروتنی کرنا، نرم ہونا، ذلت کے قریب پہنچنا، سوال کرنا۔ ۔الابلَ: اونٹوں کو قریب کرنا۔ ۔ القومُ: اکٹھا ہونا۔ ۔ ت العُقابُ: عقاب کا ٹوٹ پڑنے کے لئے بازوؤں کو سمیٹنا۔ تَکَنَّعَ قلعہ بند ہونا۔ ۔۔ الاسیرُ فی قِدِّہ: قیدی کا تسمہ سے باندھا جانا۔ ۔ بہ: سے چمٹنا۔ اِکْتَنَعَ: حاضر ہونا، قریب ہونا۔ ۔ القومُ: اکٹھا ہونا۔ ۔ علیہ: پر مہربان ہونا۔ ۔۔۔ فلانٌ مِنّی: کا میرے قریب ہونا۔ الکانِعُ (فا): وہ جو قریب ہو، جھوٹا ہو، بعض بعض سے قریب ہو، کہا جاتا ہے۔ اَنْفٌ کانِعٌ چپٹی ناک، اسیرٌ کانِعٌ تسمہ سے بندھا ہوا قیدی۔ رَجُلٌ کانِعٌ: وہ شخص جو اہل وعیال سمیت تمہارے پاس آ پڑے اور تمہارے فضل و احسان کی طمع کرے۔ الکُناعُ مرض کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کا چھوٹا ہونا گویا کہ کٹا ہوا یا مڑا ہوا ہے۔ الکَنِیعُ ٹکڑا ہوا، راستے سے ہٹا ہوا، ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا۔ من الجوعِ سخت بھوک۔

الاَکْنَعُ ج کُنْعٌ: شل شدہ، کٹے ہوئے ہاتھ والا، ۔۔۔ من الامور: ناقص، ادھورا کام۔ المُکَنَّعُ: کٹے ہوئے ہاتھ والا اور فالج زدہ شخص المُکْتَنِعُ بمعنی المُکَنَّع یدٌ مَکْنُوعَۃٌ: شل ہاتھ۔ المَکْنُوعُ (مفع) دونوں ہاتھ کٹا ہوا۔

۲۔ کَنَعَ ۔ کُنُوعًا عن الامرِ: کسی معاملہ میں بزدل ہونا اور بھاگنا۔ کَنَّعَ عنہ: سے علیحدہ ہونا۔ المکنیع: راستے سے ہٹ جانے والا۔

۳۔ کَنَعَ ۔ کُنُوعًا باللّٰہ: اللہ کی قسم کھانا۔

کنف: ۱۔ کَنَفَ ۔ کَنْفًا الشیئَ: کی حفاظت کرنا، کو اپنے میں ملانا۔ ۔۔۔ الابلَ و للابلِ: اونٹوں کے لئے باڑ بنانا۔ ۔ الدارَ: گھر میں لیٹرین بنانا۔ ۔۔ یدَہُ: پانی وغیرہ لینے کے لئے ہاتھوں کو ملانا۔ ۔۔۔ الرجُلَ: کی مدد کرنا۔ فلانًا عن الامر: کو سے روکنا۔ کَنَّفَ الرجُلَ: کا احاطہ کرنا، کو گھیرنا۔ کانَفَ و اَکْنَفَ الرجُلَ: کی مدد کرنا۔ اِکْتَنَفَ: اونٹوں کے لئے باڑہ بنانا۔ القومُ فلانًا: قوم کا کسی کو گھیرنا۔ القومُ: لیٹرین بنانا۔ الکِنْفُ: تاجر یا چرواہے کے سامان رکھنے کا برتن۔ الکَنَفُ ج اَکْنافٌ: جانب، سایہ، پرندے کا بازو، طرف۔ کَنَفُ الانسانِ: پہلو، یا دونوں بازو اور سینہ کہا جاتا ہے۔ انت فی کنفِ اللّٰہ: تم اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو۔ الکانِفَۃُ: روکنے والا الکَنَفَۃُ: گوشہ، الکِنافَۃُ ج کِنافاتٌ (ط) پیسٹری۔ الکَنِیفُ ج کُنُفٌ و کُنُفٌ: پردہ، پردہ کرنے والا، ڈھال، جانوروں کا باڑہ، لیٹرین، دروازے کا چھجہ یا چھپر کہا جاتا ہے۔ رجلٌ مُکَنَّفُ اللحیۃِ: بھاری داڑھی والا امرد، دراز ریش مرد۔

۲۔ کَنَفَ ۔ کَنْفًا عنہ: سے علیحدہ ہونا۔

۳۔ الکُنْفُرُوا (ن): پھیلنے والا پودا، یہ میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے اس کے پتے شریانوں کی شکل میں ملائم، لمبے اور باریک ہوتے ہوئیں، یہ بڑی تیز رفتاری سے بڑھتا ہے اور اسے زرد رنگ کے فوم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

کنک: الکَنْکَرُ (ن) دیکھیں قلقاس رومی۔

○ کَنَفَ ۔ کَنْفًا ہ: کی نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا۔ ۔ ھ: کے گرد باڑھ لگانا۔ ۔ ہ/ھ کو گھیرے میں لینا۔ ۔ ہ: کی مدد کرنا، اعانت کرنا۔ کانَفَ و اَکْنَفَ ہ: کو پناہ دینا، کی حفاظت کرنا، مدد کرنا، اعانت کرنا۔ اِکْتَنَفَ ھ کا دونوں جانب سے احاطہ کرنا، کو گھیرے ہوئے ہونا، کی احاطہ بندی کرنا، کو آغوش میں لینا۔ کَنَفٌ جمع اَکْناف: جانب، پہلو، طرف، بازو، سایہ، پناہ گاہ، جنگلا، کٹہرا، باڑہ، گود، فی کَنَفِ: کی آڑ میں، کی اوٹ میں، کے ماحول میں۔ فی اَکْنافِہ: کی زیر حفاظت کی زیر سرپرستی میں۔ کُنافۃ جمع کُنافات: سویاں۔ کَنِیف جمع کُنُف: طہارت خانہ، فلش، بیت الخلا، پیشاب خانہ مُکْتَنَفٌ ب: سے گھرا ہوا، سے احاطہ کیا ہوا۔

○ کَنْفاش: کینوس Canvas

○ کَنْکۃ (تنکۃ) جمع کنکات: کافی (قہوہ) کی پیالی۔

○ کَنْکَنَ: گھر پر ٹھہرنا، رہنے لگنا، آرام سے رہنا، جیسے اپنے گھر میں ہو، ساتھ لگنا۔

○ کَنْکِینا: کونین۔

کنہ: اَکْنَہَ و اِکْتَنَہَ الشیئَ: کی حقیقت کو پہنچنا۔ الکُنْہُ: چیز کا جوہر، اصل قدر، حقیقت غایت اور وقت۔ شاعر کا کہنا ہے۔ فاِنَّ کلامَ المرءِ فی غیرِ کنہِہ یعنی اس نے بے موقع بات کہی۔

○ کنہ: اِکْتَنَہَ ہ کی تہہ تک پہنچنا، کا کھوج لگانا، کی چھان بین کرنا، کو پوری طرح سمجھنا۔ اِسْتَکْنَہَ ہ کا کھوج لگانے کی کوشش کرنا، کی تہہ تک پہنچنا، کو سمجھنا، معلوم کرنا، دریافت کرنا۔ کُنْہ انتہا، بنیادی نکتہ، ماہیت، اصل حقیقت، حقیقی فطرت، اصلی وجود۔ یعرِفُہُ کُنْہَ المعرفۃ: وہ اسے پوری طرح سے سمجھتا ہے۔ تکہنات: قیاس آرائیاں، قیاسات، پیشن گوئیاں۔ اِکْتِناہ و اِسْتِکْناہ: تہہ تک رسائی، تیز فہمی، تحقیق، کھوج۔

کنو: کَنا ۔ یَکْنُو کِنایَۃً بالشیئِ عن کذا: سے کا کنایہ کرنا، لفظ بولنا اور اس کے غیر مدلول کا ارادہ کرنا۔ الکُنْوَۃُ و الکِنْوَۃُ کنیت۔ دیکھو کنی یکنی

کنی: کَنی یَکْنِی کِنایَۃً بالشیئِ عن کذا: لفظ بولنا اور اس کے غیر مدلول کا ذکر کرنا مثلاً آپ کہیں زَیْدٌ کَثِیرُ الرَّمادِ: اور مراد لو کہ زید کریم ہے۔ متکلم کو کانٍ اور لفظ کو مَکْنِیٌّ عَنْہُ کہتے ہیں۔ کَنی ۔ کُنْیَۃً و کِنْیَۃً و کَنّی تَکْنِیَۃً زیدًا اباقلان و کَناہُ او کَنّاہُ بابی فلان: کی کنیت رکھنا۔ اَکْنی اِکْناءً زیدا اباقلان: کی کنیت رکھنا۔ تکَنّی تَکَنِّیًا بکذا: اپنی کنیت رکھنا۔ ۔۔۔ الرجُلُ: مشہور ہونے کے لئے اپنی کنیت بیان کرنا۔ چھپنا۔ اِکْتَنی اِکْتِناءً بکذا: اپنی کنیت رکھنا۔ الکانِی ج کُناۃٌ و کانُونٌ (فا) الکُنْیَۃُ و الکِنْیَۃُ و الکُنْوَۃُ و الکِنْوَۃُ ج کُنًی و کِنًی: وہ نام جو کسی کی تعظیم یا علامت کے لئے بولا جائے، وہ نام جو اب، ابن، ام یا بنت سے شروع کیا جائے۔ الکِنایَۃُ (مص) ۔۔۔ فی الاصطلاح: اصطلاح میں کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ شیئ معین کو کسی ایسے لفظ سے تعبیر کیا جائے جس کی دلالت اس پر صریح نہ ہو اور ایسا کسی غرض کے لئے کرتے ہیں مثلاً سامعین سے بات کو مبہم رکھنا جیسے آپ کہیں۔ ھُمْ بَنُو اُمِّی یعنی وہ میری امی کے بیٹے ہیں (مراد بھائی)۔ الکَنِیُّ ہم کنیت، کہا جاتا ہے۔ ھُوَ کَنِیُّہٗ یعنی دونوں کے لئے ایک کنیت ہے جیسے تم کہتے ہو۔ ھُوَ سَمِیُّہٗ یعنی دونوں ہم نام ہیں۔

○ کَنا ۔ و کَنی ۔ کِنایَۃً ب عن: کو کے لئے مجازاً استعمال کرنا۔ کا سے اشارہ کرنا۔ تلمیح کرنا، کنایہ کرنا۔ کَنی ۔ کُنْیَۃً و کِنْیَۃً و کَنّی ہ ب: کو کے خاندانی نام، عرفیت سے پکارنا۔ تَکَنّی و اِکْتَنی ب: کے خاندانی نام (عرفیت) سے معروف ہونا۔ خود کو کے خاندانی نام سے پکارنا۔ کی کنیت رکھنا۔ بالکِنایَۃ: بہ واسطہ، بالواسطہ، ھو کنایۃ عن: وہ کے مترادف ہے، اس کا مطلب ہے۔ معنی ہے کہ، وہ کی علامت ہے، وہ پر مشتمل ہے۔ کِنایۃ عن: کے مترادف، کی جگہ، کے بجائے۔ مَکْنِی عنہ مجازاً اظہار کیا ہوا۔ مُکَنّی: خاندانی نام والا، عرفیت والا۔

کھب: کَھِبَ ۔ و کَھُبَ ۔ کَھَبًا و کُھُوبًا: سیاہی مائل بھورا ہونا صفت: کاھِبٌ و اَکْھَبُ۔ اِکْھابَّ اِکْھِیبابًا لَوْنُہٗ: کا رنگ متغیر ہونا۔ الکُھْبَۃُ: سیاہی مائل بھورا رنگ۔ رَجُلٌ اَکْھَبُ اللَّوْنِ: متغیر رنگ والا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کھد: کَھَدَ ـَ کَھْدًا و کَھَدَانًا الحمارُ: گدھے کا دوڑنا۔ الرجُلُ تھکنا۔ الحمارُ: گدھے کو دوڑانا۔ ـفی الطلب: پر اصرار کرنا۔ اَکْھَدَ: تھکنا۔ فلانًا: کو تھکانا۔ الکَھْدُ (مص): مشقت۔ الکَھداء: باندی، کہا جاتا ہے۔ اَتَانٌ کَھُودُ الیَدَیْنِ: تیز رفتار گدھی۔

کھر: کَھَرَ ـَ کَھْرًا فلانًا: کے ساتھ حقارت سے ترش روئی سے پیش آنا، کو جھڑکنا، پر قہر کرنا۔ الکَھُوْرُ ج کَھَارِیْرُ: ترش رو جو لوگوں کو جھڑکے۔ الکَھُوْرَۃُ ج کَھَارِیْرُ بمعنیٰ الکَھُوْر: ترش روئی۔

۲۔ کَھَرَ ـَ کَھْرًا النھارُ: دن کا بلند ہونا۔ الحرُّ: گرمی تیز ہونا۔

۳۔ کَھَرَ ـَ کَھْرًا الرجُلُ: ہنسنا۔

۴۔ کَھَرَ ـَ کَھْرًا فلانًا: سے خسر داماد کا تعلق کرنا۔

۵۔ کَھْرَبَ الشیئَ: میں قوت کہربائیہ (یعنی برقی طاقت) بھرنا (فارسیہ)۔ تَکَھْرَبَ فلانٌ او الشیئُ: بجلی کو چھونے کی وجہ سے اس میں قوت کہربائیہ سرایت کرنا ـــ فلانٌ: غصے سے بھڑ جانا۔ الکَھْرَبَا: ایک درخت کا گوند کہ اس کو رگڑ دیا جاتا ہے تو تنکا وغیرہ کو کھینچ لیتا ہے۔ الکَھْرَبَاءُ (ف): کہرباء: بجلی۔ الکَھْرَبَائِیَّۃُ و الکَھْرَبِیَّۃُ: بجلی کی طاقت۔ السیَّال الکھربائی: بجلی کی تاروں میں چلنے والی قوت۔ الکُھَیْرِبُ (ف): الیکٹرون (Electron)

○ کَھْرَبَ ہ: میں بجلی لگانا، کو برقانا، برقی بنانا، بجلی سے چلنے والا بنانا، کو برقپاروں میں تبدیل کرنا۔ تَکَھْرَبَ: بجلی لگا ہوا، برقایا ہوا ہونا، برقی بنایا ہوا ہونا، برقی بنایا ہوا، بجلی سے چلنے والا بنایا ہوا ہونا، برقی ہو جانا، بجلی بھرا ہوا ہونا، برقپاروں میں تبدیل ہونا۔ کَھْرَبَۃ: بجلی لگانا، بجلی سے چلنے والا بنانا، برقانا، برقی بنانا، بجلی، برق، برقی قوت۔ کُھَیْرِب جمع کُھَارِب: الیکٹرون۔ کُھَیْرِبِی: الیکٹرونک۔ الیکٹرون، منفی برقیہ والا۔ المِجْھَر الکھیربی: الکٹرونی خوردبین۔ کَھَارِبِی: الیکٹرونی۔ کَھْرَبَاء و کھربا: کہربا، عنبر، بجلی، برق۔ الکَھْرَبَاء: ٹرالی، ٹرام۔ کَھْرَبَائِی و کَھْرَبِی: برقی، بجلی والا، بجلی کا مستری، الیکٹریشن۔ تیّار کھربائی: برقی رو۔ جامعۃ کھربائی: سٹوریج بیٹری، سیکنڈری بیٹری، مخزن برق، برقی مخزن۔ مِصباح کھربائیۃ: برقی لیمپ، روشنی کا بلب۔ علاج کھربائی: برقی علاج۔ عالم کھربائی: برقی معالج۔ مَغْنَطِیس کَھْرَبَائی: مقناطیسی برق۔ مَغْنَطِیسِیَّۃ کھربائیۃ: برقی مقناطیسیت۔ نورٌ کھربائی: برقی روشنی۔ کَھْرَبَائِیَّۃ و کَھْرَبِیَّۃ: بجلی، برق۔ مُکَھْرَب: بجلی بھرا، بجلی لگایا ہوا، برقایا ہوا، برقی بنایا ہوا۔ برق ایصال کرنے والا۔ برق پاروں میں تبدیل کیا ہوا۔ برقی آتش زن لگا ہوا۔ کَھْرطِیسی: برقی مقناطیسی۔ کَھْرمان: عنبر کہربا۔

کھف: تَکَھَّفَ الجبلُ: پہاڑ کا غاروں والا ہونا۔ اِکْتَھَفَ الکھفَ: غار میں داخل ہونا۔ الکَھْفُ ج کُھُوفٌ: غار: (غار اور کہف میں فرق یہ ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور کہف وسیع) جائے پناہ۔

○ اصحاب الکھف: غار میں سات سونے والے۔

کھک: ۱۔ کَھْکَہَ المقرورُ: سردی زدہ شخص کا سانس سے ہاتھوں کو گرم کرنا ـــ الشیئُ: گرم ہونا۔ شَیْخٌ کَھْکَۃٌ: بوڑھا جو سردی کھائے ہوئے ہاتھوں کو سانس سے گرم کرے۔ الکَھْکَھَۃُ (مص): حرارت۔

۲۔ کَھْکَہَ الاسدُ او البعیرُ: کر کر کی آواز نکالنا۔ الکَھْکَھَۃُ: شیر یا اونٹ کی آوازوں کی نقل۔

۳۔ تَکَھْکَہَ عنہ: ضعیف و کمزور ہونا۔ الکَھْکَاہُ و الکَھْکَاھَۃُ: ضعیف، خوفناک۔

کھل: ۱۔ کَھَلَ ـُ کُھُولًا و کَھُلَ ـُ کُھُولَۃً: ادھیڑ عمر ہونا۔ کَاھَلَ مُکَاھَلَۃً الرجُلُ: ادھیڑ عمر ہونا۔ تَکَھَّلَ النباتُ: پودے کا پوری لمبائی کا ہونا۔ اِکْتَھَلَ: ادھیڑ عمر کا ہونا ـــ النباتُ: پودے کا پوری لمبائی کا ہونا۔ الکَھْلُ ج کَھْلُونَ و کُھُولٌ و کِھَالٌ و کُھْلَانٌ و کُھَّلٌ: جس کی عمر تقریبًا تیس سے پچاس سال ہو۔ ادھیڑ عمر (شخص) الکَھْلَۃُ ج کَھْلَاتٌ و کَھَلَاتٌ: کَھْلٌ کی مونث۔ ادھیڑ عمر (عورت) الکُھُولَۃُ و الکُھُولِیَّۃُ: کہولت کی حالت، ادھیڑ عمر۔

۲۔ کَاھَلَ مُکَاھَلَۃً الرجُلُ: شادی کرنا۔

۳۔ الکَاھِلُ ج کَوَاھِلُ (ع ا): گردن کے قریب پیٹھ کا بالائی حصہ۔ کَاھِلُ القَوْمِ: قوم کا معتمد کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ شَدِیدُ الکَاھِلِ: فلاں صاحب شوکت و وقعت ہے۔ الکَھْوَلُ (ح): مکڑی۔

○ کاھل: ثَقَّلَ کاھِلَہُ: پر بوجھ ڈالنا، لادنا، کو زیر بار کرنا۔ ثقّل کاھل المیزان: بجٹ پر بوجھ ڈالنا۔ تخفیف العبء عن کاھلہ: کسی شخص یا چیز سے بوجھ اتار دینا۔

کھم: ۱۔ کَھَمَ ـَ کَھْمًا ت الشدائدُ فلانًا: کو خوف دلانا، آگے بڑھنے سے بزدل بنانا۔ کَھُمَ ـُ کَھَامَۃً الرجُلُ: لڑائی اور مدد سے سستی کرنا۔ کَھِمَ ـَ کَھَامَۃً و کُھُومًا: کمزور ہونا۔ السیفُ: کند ہونا۔ [illegible] کند ہونا۔ کَھُمَ ـُ کَھَامَۃً و تَکَھَّمَ الرجُلُ: لڑائی اور مدد سے سستی کرنا۔ اَکْھَمَ بصرُہُ: کی نگاہ کمزور ہونا۔ الکَھَامُ و الکَھِیمُ: سست، عمر رسیدہ، جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ اور جمع کی صورت میں بھی قَوْمٌ کَھَامٌ کہا جاتا ہے۔

۲۔ کَھْمَسَ الرجُلُ: چلنے میں دونوں پاؤں کو قریب قریب رکھنا، چلنے میں غبار اڑانا۔ الکَھْمَسُ (ح): شیر (ح) بھیڑیا، بدصورت، پست قد مرد۔

○ کَھَامَۃ: کمزوری، ناتوانی، دھار کا کند ہونا، تھکاوٹ، تھکن۔

کھن: ۱۔ کَھَنَ ـَ ـُ کَھَانَۃً و تَکَھَّنَ تَکَھُّنًا و تَکْھِیْنًا لفلان: کو غیب کی باتیں بتلانا۔ کَھُنَ ـُ کَھَانَۃً: کاہن ہونا یا کہانت طبیعت ثانیہ بن جانا۔ الکَاھِنُ (فا) دوسرے کے کام کا متکفل اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنے والا۔ الکَاھِنُ ج کَھَنَۃٌ و کُھَّانٌ: جو اسرار معرفت اور احوال غیبیہ جاننے کا دعوی کرے ـــ عند الیھود و عبدۃ الاوثان: پروہت۔ عند النصاری: پادری جو کہنوت کے درجہ پر ہو (یہ لفظ یا تو عبرانی لفظ کُھِن سے ماخوذ ہے یا سریانی لفظ کُھنا سے)۔ الکِھَانَۃُ: کاہن کا پیشہ۔ الکَھْنُوتُ: کہانت، کاہن کا رتبہ۔ سِرُّ الکَھْنُوتِ: مقدس گرجوں کی سات مذہبی رسموں میں سے ایک جس کے ذریعے کاہن (پادری) حضرت عیسیٰ کے جسم اور خون کی عشائے ربانی میں پڑھی جانے والی دعاء کی تلاوت میں تقدیس اور گناہوں سے بریت کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ (سریانیہ)

۲۔ کَاھَنَ مُکَاھَنَۃً: لطف و کرم سے پیش آنا۔

۳۔ الکُھَیْنُ: قبیح صورت شخص (عامیہ)۔

○ تَکَھَّنَ ب: کی پیشین گوئی کرنا، پیش گوئی کرنا، کے واقع ہونے (عمومًا ناگوار) کی علامت ہونا۔ کِھَانَۃ: پیش گوئی، پیشین گوئی۔ کَھَانَۃ: غیب دانی، قسمت کا حال بتانا۔ کَھْنُوت: دینی پیشوائی، دینی پیشواؤں کا نظام۔ رجال الکھنوت: پادری لوگ، تمام پادری۔ کَھْنُوتِی: دینی پیشوائی سے متعلق، مُلائی، ملایانہ، پادریوں سے متعلق۔ مَکْھَن: دارالاستخارہ۔ کاھن جمع کُھَّان و کَھَنَۃ: غیب داں، قسمت کا حال بتانے والا، کاھن، پادری، پیش گوئی کرنے والا۔ رئیس الکَھَنَۃ و کبیرُ الکَھَنَۃ: بڑا پادری۔ مُتَکَھِّن: غیب دان، قسمت کا حال بتانے والا، پیش گوئی کرنے والا۔

○ کُھْنَۃ: چھیتڑے کاٹ کباڑ، ردی مال، چیتھڑے کیا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہوا، پھٹا پرانا۔ کُھنجی: چیتھڑے جمع کرنے والا۔

کھی: كَهِيَ يَكْهَى كَهًى: کے چہرے میں جھائیں ہونا۔ الاكهى: چہرے میں جھائیں والا۔ جس کے منہ سے بدبو آئے۔

۲۔ كَهِيَ يَكْهَى كَهًى: کمزور ہونا، بزدل ہونا۔ اَكْهَى عن الطعام: سے رک جانا۔ اِكْتَهَى اِكْتِهَاءً: کی تعظیم واجلال کرنا، یہ اکھی (بزدل) سے ماخوذ ہے کیونکہ کمزور بڑے کے سامنے بات نہیں کرسکتا۔ الاكهى: کمزور۔ بزدل

۳۔ كَاهَى مُكَاهَاةً الرجلَ: باہم فخر کرنا۔ الاكهاءُ: شرفاء

۴۔ اَكْهَى الرجلُ: انگلیوں کے اطراف کو سانس سے گرمی پہنچانا۔

۵۔ الأَكْهَى: بے شگاف پتھر۔

○ كِهايَة: تیونس کا ضلع، كاهِية جمع كَوَاهٍ: ضلع کا افسر اعلیٰ ڈپٹی۔

كوء: كَاءَ يَكُوءُ كَوْءًا و كَأْوًا عنه: سے خوف کرنا، کے مقابلہ میں بزدل ہونا۔ اَكَاءَ اِكَاءً و اِكَاءَةً: کسی کام پر آجا تک پہنچنا اور پھر خوف سے چھوڑ دینا۔ الكَاءُ والكَاءَةُ والكَيُّ والكَيْئَةُ: کمزور دل والا، بزدل۔

○ كُوَة جمع كُوَات و كُوًى و كِواء: چھوٹی کھڑکی، موکھا، سوراخ، روزن، بالائی کھڑکی، سقفی روشندان جھانکنے کا سوراخ۔

○ كوَالِيني جمع كوالينية: قفل ساز، تالوں والا۔

كوب: كَابَ يَكُوبُ كَوْبًا و اِكْتَابَ: بے دستہ کٹورہ پیالہ یا کوزہ سے پانی پینا۔ الكُوبُ ج اَكْوَابٌ: بے دستہ کوزہ، کٹورہ، پیالہ۔ الكُوبَةُ: ڈگڈگی

۲۔ كَوَّبَ الشيءَ: کوبے سے کوٹنا۔ الكُوبَةُ: دوا وغیرہ پیسنے کا بٹا۔

۳۔ الكُوبَانُ: فارسیوں کا لباس (عامیہ) لِكُوبَة: فوت شدہ پر حسرت وافسوس۔ الكُوبَةُ: شطرنج، نرد۔

○ كُوب جمع كواب: (پینے کا) گلاس، پیالی، پیالہ، جام كُوبة: پینے کا گلاس، پان کی شکل کا تاش۔ كُوبَرْتَة: عرشہ جہاز، کوبری جمع كَبَارِى: پل۔

○ كوبنهاج: کوپن ہیگن (فرانس کا ایک شہر) کوبنهاج: بمعنی بالا

○ كُوبِيَا: کاپی قلم كوبيا: کاپنگ پنسل، آمٹ پنسل۔

○ كوبيل: سنگریزوں کا فرش، صاف سنگریزے۔

○ كوبية: کاپی۔

○ الكويت: کویت (ایک ملک کا نام)

○ كُوتَر جمع كَوَاتِر: دو ستولوں والی کشتی۔

كوث: ۱۔ كَوَّثَ الزرعُ: کھیتی کا چار پانچ پتوں والی ہونا۔ الكَوْثُ: جوتا۔ الكُوثَةُ: فراخی، زرخیزی۔

۲۔ تَكَوْثَرَ الغبارُ: زیادہ اور تہ بتہ ہونا۔ الكَوْثَرُ: بہت اور تہ بتہ، یا گھنا وگنجان چیز۔ بہت اور تہ بتہ غبار، بہت بڑا فیاض سردار، ایک نہر جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں ہے پُر شیریں پانی۔

۳۔ الكَوْثَلُ والكَوْثَلُ: جہاز کا پچھلا حصہ۔

○ كوثة: زرخیزی، بہتات، فراوانی، وفور، افراط۔

○ كَوْثَر: بہت، فراخ، کشادہ، وسیع، کثیر، وافر، فراواں، بڑی مقدار۔

○ كوثل: جہاز کا دنبالہ۔

كوح: ۱۔ كَاحَ يَكُوحُ كَوْحًا هُ: پر لڑائی میں غالب آنا۔ —الشيءَ: کو پانی میں ڈبونا، مٹی میں دبانا۔ كَوَّحَ هُ: کو غالب بنانا — فلانًا: کو ذلیل کرنا، رد کرنا۔ الزمامُ البعيرَ: نکیل کا اونٹ کو مغلوب کرنا۔ كَاوَحَ مُكَاوَحَةً: سے گالی گلوچ کرنا۔ سے لڑائی کرنا اور اس پر غالب آنا۔ اَكَاحَ اِكَاحَةً: سے لڑنا، پر غالب آنا، کو ہلاک کرنا۔ تَكَاوَحَ الرجلان: باہم جنگ وجدال کرنا۔

۲۔ الكَاحُ والكِيحُ ج كُيُوحٌ و اَكْيَاحٌ: دامن کوہ کہا جاتا ہے: رَجَعَ اِلَى كُوحِهِ: یعنی پہلے اس نے کچھ بھلائی کی پھر باز رہا۔

كوخ: الكُوخُ ج اَكْوَاخٌ و كُوخَانٌ و كِيخَانٌ و كِوَخَةٌ: جھونپڑی (اسی سے ہے۔ كُوخُ الصَّائِد: شکاری کی جھونپڑی، کھیت یا باغ کی جھونپڑی جس کو کاشتکار کھیت کی حفاظت کے لئے اور باغبان باغ کی حفاظت کے لئے بنالیا کرتے ہیں۔ الكَاخُ ج اَكْوَاخٌ و كُوخَانٌ و كِيخَانٌ و كِوَخَةٌ: جھونپڑی۔ لَيْلَةٌ كَاخٌ: تاریک رات۔ الكَاخِيَةُ ج كَوَاخٍ عند ارباب السياسة: والی کا معتمد، محافظ اسرار، یہ اصل میں کتخدا تھا تحریف ہو کر کاخیہ بن گیا (فارسیہ)

كود: ۱۔ كَادَ يَكُودُ كَوْدًا بنفسه: جان دینا۔

۲۔ كَادَ يَكُودُ كَوْدًا هُ: کو منع کرنا۔

۳۔ كَادَ يَكَادُ كَوْدًا و مَكَادًا و مَكَادَةً: فعل کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا جیسے كَادَ يَضْرِبُ: مارنے کے قریب ہوا مگر مارا نہیں اور یہ افعال مقاربہ میں سے ہے اور اس کے خبر کے ساتھ حرف اَنْ بہت کم آتا ہے اور کبھی ارادہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسی سے ہے۔ اَكَادُ اُخْفِيهَا یعنی میں نے اس کو پوشیدہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور عُرِفَ مَا يَكَادُ مِنْهُ: یعنی جو ارادہ کیا جائے معلوم ہو جاتا اور کَادَ کبھی زائد ہوتا ہے اور کلام کا صلہ واقع ہوتا ہے جیسے۔ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا: یعنی لَمْ يَرَهَا، کے معنی میں اور کَادَ کے عوض میں كِيدَ يَفْعَلُ كَذَا بھی سنا گیا ہے۔ المَكَادَةُ (مص): کہا جاتا ہے۔ لَامَهَمَّ لِي وَلَا مَكَادَةً: نہ تو مجھے اس کا قصد ہے اور نہ اس کے قریب ہوں۔

۴۔ كَوَّدَ الشيءَ: کو جمع کرنا اور ایک ڈھیر بنانا۔ الكَوْدَةُ: مٹی وغیرہ کا تودہ۔

۵۔ اِكْوَادَّ۔ اِكْوِنْدَادًا: بوڑھا ہونا اور کانپنا۔

۶۔ الكَوْدَنُ ج كَوَادِنُ، الكَوْدَنِيُّ (ح) غیر اصیل گھوڑا، ہاتھی۔

كوذ: كَوَّذَ الازارَ: ازار کا گرنا اور ران کے اوپر والے حصہ تک آجانا۔ الكَاذَةُ: ران کے اوپر کا ابھرا ہوا گوشت۔ الكَاذِيُّ (ن): کیوڑہ۔

○ كاد: يكاد أن: کرنے لگنا۔ كَادَ يَمُوتُ: وہ تقریباً مر گیا۔ كِدْتُ اَذْهَبُ: میں تقریباً چلا گیا۔ يكاد يكون في حكم العدم: یہ تقریباً کالعدم ہے۔ ما كاد يقوم: جیسے ہی وہ اٹھا۔ لا تكاد ترى: تم مشکل سے کبھی دیکھو گے، جس لمحے تم دیکھو۔ لم يكد يراها: جیسے ہی اس نے اسے دیکھا، جس لمحے اس نے اسے دیکھا۔ لم يكد: ...... حتی ما کاد: ...... حتی، جیسے ہی، جس لمحے، وہ۔ بالكاد: تقریباً، قریب، قریب،

○ كُودِيَة زار: زار روس کی رسومات کی خاتون قائد۔

كور: ۱۔ كَارَ يَكُورُ كَوْرًا العمامةَ و نحوها على رأسه: سر پر پگڑی وغیرہ باندھنا۔ — الحمّالُ الكارةَ: قلی کا گٹھڑی اٹھانا — الارضَ: زمین کھودنا۔ كَوَّرَ هُ: کو پچھاڑنا، نیزہ مار کر گرا دینا — العمامةَ: سر پر پگڑی باندھنا، اس سے ہے۔ تكوير الحساب: متفرق چیزوں کو ایک ہی مجموعہ میں جمع کرنا — المتاعَ: کو تہ بتہ رکھنا۔ اللّٰهُ الليلَ على النهار: رات کو دن میں داخل کرنا۔ كُوِّرَتِ الشمسُ: آفتاب کی روشنی لپیٹا جانا اور بقول بعض مضمحل کیا جانا اور جاتا رہنا۔ تَكَوَّرَ: گرنا، پچھاڑا جانا۔ اِكْتَارَ اِكْتِيَارًا: عمامہ باندھنا — الشيءُ: بعض کو بعض پر پٹکنا۔ — الرجلُ: پچھاڑا جانا، گرنا، کہا جاتا ہے۔ كَوَّرَهُ فَاكْتَارَ: یعنی اس نے اسے پچھاڑا تو وہ گر گیا۔ اِسْتَكَارَ اِسْتِكَارَةً: اپنی پیٹھ پر گٹھڑی اٹھانا۔ الكَارَةُ ج كَارَاتٌ غلہ کی ایک معلوم مقدار — من الثياب: دھوبی کی کپڑوں کی گٹھڑی۔ الكَوْرُ (مص) ج اَكْوَارٌ: عمامہ کا پیچ، بڑی جماعت، اونٹوں یا گائیوں کا گلہ، زیادتی (كور العمامة: سے ماخوذ) الكُوَرُ: بھڑوں کا چھتہ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

النُّكُوْرُ ج اَكْوَارٌ و اَكْوُرٌ و كِيْرَانٌ و كُوْرَانٌ: مٹی کی انگیٹھی۔ الكُوْرَةُ ج كُوَرٌ: قصبہ۔ الكُوَارَةُ: شہد کی مکھیوں کے لئے ٹہنی یا مٹی کا بنایا ہوا گھروندہ یا موم سمیت شہد، آٹے یا گندم کا ذخیرہ کر کے رکھنے کی مٹی کی کوٹھی۔ النِّكْوَرَةُ: پگڑی۔ نِ كُوَّارَةُ: شہد کی مکھیوں کیلئے ٹہنی یا مٹی کا بنایا ہوا گھروندہ یا موم سمیت شہد۔ المِكْوَرُ و مِكْوَرَةٌ: پگڑی۔ المُكَوَّرُ و المُكَوَّرِيُّ مونث مُكَوَّرِيَّةٌ: چوڑے بدن کا پست قد۔

٢۔ كَارَ يَكُوْرُ كَوْرًا في مشيته: تیز چلنا۔ كَارَ كِيَارًا الفرسُ ذَنَبَهُ: گھوڑے کا دوڑنے میں دم اٹھانا۔ كَـارَ كَيـارًا الفرسُ: دوڑنے میں دم اٹھانا۔ في الارض: تیز چلنا۔ سُكْرَ سُكْرَةً: تیز چلنا۔ كُوْرَةٌ: تیز دوڑ۔

٣۔ كَارَ كَرْوعة: کو ضعیف و کمزور سمجھنا۔ ذلیل کرنا۔ كُوْرٌ و مَكْوُرٌ: اونٹ کا کجاوہ یا کجاوہ مع سامان۔

٤۔ تَكَوَّرَ: تیز گزر جانا۔ اِكْتَارَ اِكْتِيَارًا الرجلُ للرجلِ: کو گالی دینے کے لئے آمادہ ہونا۔

٥۔ الكُوْرُ ج كارات: ایک قسم کا جہاز — عند العامة: صنعت وحرفت (فارسیہ) الكُوْرُ: طبیعت، عادت، کہا جاتا ہے لَهُ كُوْرٌ كَرِيْمٌ: اس کی طبیعت اچھی ہے۔ المُكَوَّرِيُّ و المِكْوَرِيُّ مونث مُكَوَّرِيَّةٌ: کمینہ۔ الكُوْرَارُ: ایک نباتی زہر جسے جنوبی امریکہ کے اصلی باشندے تیروں کو زہر آلود کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ⓤ كَوَّرَه: کو لپیٹنا، کنڈل بنانا، لپیٹ کر گولا بنانا — ه (پگڑی) باندھنا — ه کو گول بنانا، گیند کی شکل کا بنانا۔ قَبْضَتَهُ: اپنی (مٹھی) بھینچنا۔ تَكَوَّرَ: گول ہو جانا، گیند کی شکل کا ہونا یا ہو جانا، کروی ہونا یا ہو جانا، لوٹ پوٹ ہونا، ڈھیر ہونا۔ كُوْر جمع كِوَار واَكْوَار و كِيْرَان: اونٹ کی پالان، کاٹھی، بھٹی، بھٹی (دھاتوں کو گلانے کی)، بھٹی، تنور، دھونکنی، كُوْرَة جمع كُوَر: ضلع، دیہاتی علاقہ، قصبہ گاؤں، گیند، كُوَارَة جمع كَوَائِر: چھتا (شہد کی مکھی کا) كُوْرَوِي: گیند کی شکل کا، کروی۔ مِكْوَر و مِكْوَرَة: پگڑی۔ مُكَوَّر: گیند کی شکل کا، گول، کروی۔ بِـالكُوْرْجَة: ڈھیر کے حساب سے، سارا ایک بار، تھوک۔

ⓤ كُوْرْدُون جمع كُوْرْدُونَات: فیتہ، ڈوریہ، ڈوری، لیس، فیتہ، گوٹ، کناری۔

ⓤ كُوْرْس: گلوکاروں کا طائفہ (مجازا): گرجے کی بھجن منڈلی۔ كُوْرْسِيه جمع كُوْرْسِيهات: زنانہ زیر

جامہ۔ كُوْرْك و كُوْرِيلك: بیگار

ⓤ كُوْرْنِيش: دیکھو كرنيش

ⓤ كُوْرِيَا: ایک ملک کا نام كوري: کوری کوریائی۔

كوز: كَازَ يَكُوْزُ كَوْزًا: کوزے سے پینا۔ الشيئَ: کو جمع کرنا۔ تَكَوَّزَ القومُ: قوم کا اکٹھا ہونا۔ اِكْتَازَ: کوزے سے پینا۔ الماءَ: پانی کو کوزے سے لے لینا۔ الكُوْزُ ج اَكْوَازٌ و كِيْزَانٌ و كِوَزَةٌ: کوزہ (ارامیہ)۔ مُكَوَّزُ الرَّاسِ: لمبے سر والا۔

٢۔ الكَازُ: پٹرول (عامیہ)۔ عند الاساكفة: چمڑا کاٹ چھانٹ کرنے کی موچی کی رامی (فارسیہ)۔

كوس: ١۔ كَاسَ يَكُوْسُ كَوْسًا على رأسه: سر کے بل الٹ پڑنا — في البيع: قیمت گھٹانا، کہا جاتا ہے۔ لَاتَكُسْنِي يَافلانُ في البيعِ: یعنی اے فلاں میرے لئے قیمت مت گھٹاؤ۔ واَكَاسَ اِكَاسَةً: ؛ کو پچھاڑنا۔ كَوَّسَ الشيئَ على رأسه: کو سر کے اوندھا کرنا۔ تَكَوَّسَ الرجلُ: سرنگوں ہونا۔

٢۔ كَاسَ يَكُوْسُ كَوْسًا البعيرُ: ایک ٹانگ کے زخمی ہونے کی وجہ سے تین ٹانگوں پر چلنا — في السير: آہستہ آہستہ چلنا کہا جاتا ہے: فلان يَكُوْسُ في السَّيْرِ: فلاں چلنے میں دیر کرتا ہے۔ الكُوْسِيُّ من الخيل: چھوٹی ٹانگوں والا گھوڑا مونث كُوْسِيَّةٌ۔

٣۔ كَاسَ يَكُوْسُ كَوْسًا الحيّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ تَكَاوَسَ لحمُهُ: گوشت کا تہہ بتہہ ہونا — العشبُ: گھاس کا گنجان اور بہت ہونا۔ لُمْعَةٌ كَوْسَاءُ ج كُوْسٌ: آپس میں لپٹا ہوا خشک گھاس کا مٹھا۔ رَمْلٌ كُوْسٌ: تہہ بتہہ جما ہوا ریت۔ المَكْوَسُ: سانپ کے کنڈلی مارنے کی جگہ۔

٤۔ اِكْتَاسَ ه عن حاجته: کو ضرورت سے روکنا۔

٥۔ الكَاسُ: كَأْسٌ: کا مخفف بمعنی پیالہ۔ الكُوْسُ: دریا کا تلاطم، ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الكُوْسُ ج كُوْسَانٌ: ڈھول، ایک مثلث پیمانہ جس کو بڑھئی استعمال کرتے ہیں اسے عام طور پر زاویہ کہتے ہیں (فارسیہ) الكُوْسَا واحد كُوْسَاةٌ (ن) امریکی اصل کی کھیرے کی طرح لمبی شکل کی سبزی جسے پکا کر کھایا جاتا ہے عام لوگ ایک كوساية کہتے ہیں۔ المِكْوَسُ ج مَكَاوِسُ: چکی کے پتھر درست کرنے کی چھینی۔

٦۔ كَوْسَجَ و تَكَوْسَجَ الرجلُ: کوسج ہونا۔ الكَوْسَجُ جمع كَوَاسِجُ: صرف تھوڑی پر داڑھی والا، کم دانتوں والا، آہستہ چلنے والا گھوڑا ا۔ (ح) ایک قسم کی مچھلی جس کی ناک آرے کی طرح ہوتی ہے۔

كوش: … كُوْشًا …

عام لوگ کہتے ہیں۔ كَـاش اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دنیا کی محبت شدت اختیار کر لے یا اس میں منہمک ہو جائے صفت كايش اور اسم كَوْشَةٌ ہے۔

ⓤ كُوز جمع كِوَاز و كِيْزَان: مٹی یا ٹین کا چھوٹا جگ، مگ، آبخورہ كوز الذرة: مکی۔

ⓤ كُوْس جمع كُوْسَات: چھوٹا ڈھول۔

ⓤ كُوَيِّس: عمدہ، اچھا، خوب، نفیس، شاندار، دلکش، حسین، خوبصورت، خوش انداز، خوبرو، خوبصورت اَكْوَس: زیادہ خوبصورت، زیادہ دلکش، نفیس تر، زیادہ شاندار۔

ⓤ كَوْسَج: کتار مچھلی، تیغ ماہی۔

ⓤ كُوشَة جمع كُوَش: بھٹہ، پژاوہ (خصوصا): چونے کی بھٹی۔

كوع: كَاعَ يَكُوْعُ كَوْعًا الكلبُ: گرمی کی وجہ سے کہنی پر چلنا، زخمی ہونے کی وجہ سے کلائی پر چلنا۔ كَوِعَ يَكْوَعُ كَوَعًا: بڑی کہنی والا ہونا، مڑی ہوئی کلائی والا ہونا، صفت اَكْوَعُ مونث كَوْعَاءُ ج كُوْعٌ۔ كَوَّعَ ه بالسيف: کو تلوار مار کر کلائی ٹیڑھا کرنا۔ تَكَوَّعَتْ يَدُهُ: کی کلائی کا ٹیڑھا ہونا۔ الكَاعُ ج اَكْوَاعٌ (ع ا): انگوٹھے کی جانب کہنی کا کنارا۔ الكُوْعُ ج اَكْوَاعٌ (ع ا): بمعنی الكاع — عند العامة: راستہ کا موڑ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ كَوَّعَ: یعنی وہ تنگ گلی میں چلا۔ الكَوَعُ (مص): کلائی کی جانب ہتھیلی کا ٹیڑھا پن، ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کے بالمقابل آنا، پاؤں کے انگوٹھے کا دوسری انگلیوں کی طرف جھکاؤ۔

ⓤ كُوع و كاع جمع اَكْوَاع و كيعان: کلائی کی ہڈی، کہنی كُوْع: پائپ کا کونہ (مڑا ہوا)، زاویہ، پائپ کا بل، (سڑک کا) موڑ، پائپ کا کونہ۔ لا يعرف الكوع من البوع: اسے اپنی کہنی سے اپنے گھٹنے کا پتہ نہیں یعنی وہ بے وقوف ہے۔

كوف: كَافَ يَكُوْفُ كَوْفًا الاديمَ: چمڑے کے کناروں کو ملا کر سینا۔ كَوَّفَ الرجلُ: کوفہ میں آنا۔ الكافَ: حرف کاف لکھنا۔ تَكَوَّفَ القومُ تَكَوُّفًا و كَوْفَانًا على غير القياس: جمع ہونا۔ الرجلُ: اہل کوفہ کے مشابہ ہونا یا اہل کوفہ کی طرف منسوب ہونا۔ الكُوْفَةُ: ریت کا گول سرخ ٹیلہ، عراق کا ایک تاریخی شہر۔ الكُوْفِيُّ: کوفہ کی جانب منسوب، اور اسی سے ہے خط کوفی۔ الكُوْفِيُّوْنَ: کوفہ کے نحوی حضرات۔ الكُوْفِيَّةُ: کوفی کا مونث، سر پر لپیٹنے کا رومال اور عوام اسے الكَفِيَّةُ کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ لفظ عربی ہے اور کوفہ سے منسوب ہے جبکہ بعض کہتے ہیں یہ لفظ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اصل میں اٹلی زبان میں کوفا تھا جس کا معنی ٹوپی کے ہیں بعد میں اسے عربی الفاظ میں شامل کرلیا گیا۔ الکُوفَانُ و الکَوَفَانُ و الکَوَّفَانُ: ریت کا گول ٹیلہ، گول چیز، نرکل بانس ولکڑی کا جھنڈ، کہاجاتا ہے۔ظَلُّوا فِی کُوفَانٍ مِنْ اَمْرِھِمْ: ان کا معاملہ گڑبڑ ہوگیا، اور کہاجاتا ہے۔النَّاسُ کُوْ فِی مِنْ اَمْرِھِمْ: لوگ گڑبڑی میں ہیں

۲۔کَوَّفَ ــــ الادیمَ: چمڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ــــ الشیئَ: علیحدہ کرنا۔

۳۔الکُوفَانُ و الکَوَفَانُ و الکُوَّفَانُ: عزت وشوکت، (کہاجاتا ہے ھُمْ فِی کُوفَانٍ مِنْ ذَالِکَ یعنی وہ لوگ اس سے عزت و شوکت میں ہیں۔) مشقت۔

۴۔کَوْفَلَتِ المرأۃُ ابنَھا: عورت کا اپنے بیٹے کو کافولیۃ میں لپیٹنا۔الکافولیۃ: مربع شکل کا سفید کپڑے کا ٹکڑا، جس میں بچوں کو لپیٹا جاتا ہے۔ (عامیہ)

○ تکوَّفَ: بھیڑ کی شکل میں اکٹھا ہونا۔

کوک: ۱۔الکُوکَۃُ (ن): دو سے تین میٹر تک اونچا بیضوی شکل کے پتوں والا ایک پودا جس سے کوکین نکالی جاتی ہے۔الکُوکَائِینُ: کوکا کے درخت سے نکالا جانے والا مواد جو طب میں مقامی نشہ آور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔نشئی لوگ اس کے متمنی ہوتے ہیں۔

۲۔کَوْکَبَ الحدیدُ: چمک اٹھنا، چم چم کرنا۔الکَوْکَبُ ج کَوَاکِبُ (فلک) ستارہ، تلوار، پانی، گرمی کی شدت، لوہے کی چمک دمک سردار قوم، شہسوار، قید خانہ، ہتھیار بند آدمی، باغ کے شگوفے بغرَیْنِ البلوغ لڑکا، آنکھ کا پھولا، فوج کا یونٹ۔کَوْکَبُ البئر: کنویں کا سوت، کہاجاتا ہے ذَھَبُوْا تَحْتَ کُلِّ کَوْکَبٍ: وہ منتشر ہوگئے۔یومٌ ذو کواکب: سختیوں والا دن یعنی مصائب اس قدر طویل اور سخت ہوگئے حتی کہ دن کو تارے نظر آنے لگے۔الکَوْکَبَۃُ (فلک): ستارہ، ایک کلی۔المُکَوْکَبُ: آنکھ کے پھولے والا۔

۳۔الکَوْکَبُ ج کَوَاکِبُ: لمبی نباتات، پہاڑ، چیز کا بڑا حصہ۔الکَوْکَبَۃُ: جماعت۔

۴۔کَوْکَی کَوْکَوَۃً الرجُلُ: تیز چلنے میں جھومنا۔پستہ قد کا دوڑنا۔الکَوْکَاۃُ و الکُوَاکِیَۃُ: پستہ قد۔المُکَوْکَی: بے برکت، کیکڑا۔

○ کولومبو: کولمبو، سیلون کا دارالحکومت۔

○ کولومبیا: ایک ملک کا نام

○ کولونیا: ہلکی خوشبو کی ایک قسم۔

○ کولیرا: ہیضہ

○ کُولیس جمع کَوَالیس: سٹیج وغیرہ کے پیچھے منقش پردہ وَرَاءَ الکوالیس: پس پردہ، سٹیج کے پیچھے (مجازا)

○ کوالین: کالون کی جمع: (دروازے کا) قفل۔

کول: تَکَوَّلَ القومُ: اکٹھا ہونا۔تَکَوَّلَ وانکَالَ انکِیَالًا القومُ علیہ: کسی پر مار پیٹ اور گالی گلوچ سے ٹوٹ پڑنا۔تَکَاوَلَ الرجُلُ: کوتاہی کرنا۔ الکُوْلَۃُ (ن): استوائی افریقہ کا ایک درخت جو گرم خطوں میں کاشت کیا جاتا ہے اس کا پھل جو جوزہ الکُوْلَا کہلاتا ہے۔دل اور پٹھوں کی تحریک ونشاط کے مادہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔الکُوْلَانُ و الکُوْلَانُ واحد کُوْلَانَۃٌ: (ن) بردی نام کی ایک گھاس۔الاَکْوَلُ ج اَکَاوِلُ: پہاڑ کی مانند بلند زمین۔

○ کوف: تکوَّفَ: بھیڑ کی شکل میں اکٹھا ہونا الکوفۃ: (عراق کے ایک شہر کا نام، کوفہ، کوفی: کوفی خط، الکوفیون: کوفہ کے نحوی۔

○ کَوْک: پتھر کا کوئلہ، نیم سوختہ کوئلہ

○ کَوْکَبُ جمع کَواکِبُ: ستارہ (مجازا) فلمی ستارہ، سٹیج وغیرہ کا ستارہ، آنکھ کا پھولا، کوکب سینمائی: فلم سٹار۔کَوْکَبَۃ: ستارہ، گروہ، فوجی دستہ، پارٹی جمع کَوَاکِب: زرہ پوش یونٹوں اور سواروں کے رسالہ کا دستہ (سکواڈرن) کوکبی: ستارہ شکل کا، ستارہ جیسا، ستارے کی مانند، ستاروں کا، ستاروں سے بھرا ہوا، ستاروں کے متعلق۔

○ کوکتیل: کوکٹیل، ملی جلی شراب، ملے جلے پھلوں کا رس۔

کوم: ۱۔کَوَّمَ تکویمًا التراب: مٹی کو جمع کرنا اور تودہ تودہ کرنا۔ــــ المتاعَ: سامان کا ڈھیر لگانا۔ــــ ثیابَہٗ فی ثوبٍ واحدٍ: کپڑوں کو ایک کپڑے میں باندھنا۔اِکتَامَ اکتیامًا الرجُلُ: پیر کی انگلیوں کے اطراف پر بیٹھنا۔الکُوْمُ ج اَکْوَام: اونٹوں کا گلہ، بلند چٹان، (ٹیلہ کی طرح) الکُوْمَۃُ والکَوْمَۃُ ج کُوَمٌ واَکْوَامٌ: مٹی وغیرہ کا ڈھیر۔الاَکْوَمُ: مونث کَوْمَاءُ ج کُوْمٌ: بلند، بڑی کوہان والا اونٹ۔

۲۔الکومِسیُون: آڑھت، دلالی، کمشن ــــ فی اصطلاح السیاسیین: (سیاستدانوں کی اصطلاح میں): ایک باقاعدہ گروہ جو سیاسی اور اتحادی دعووں پر غور کے بعد ان کے بارے میں رپورٹ مرتب کرتا ہے یا فیصلے صادر کرتا ہے۔)(اس کی عربی لَجْنَۃٌ ہے)۔ الکُوْمِسیُونَجِی: اشیاء درآمد کرنے والا۔(ترکیہ)۔

○ کَوَّمَ ہ: کا ڈھیر لگانا، کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔تَکَوَّمَ: ڈھیر لگنا، جمع ہونا، ڈھیر ہوجانا۔کَوْم جمع کُوَام و کِیمان: ڈھیر، انبار، پہاڑی، کیمان: بالخصوص، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کُوْمَۃ و کَوْمَۃ: جمع کوماتٌ و کُوَم: ڈھیر، انبار، تودہ۔کومۃ الحطب: چِتا۔

○ کوماندان: کمانڈنٹ، کمانڈر

○ کومساری: دیکھو کمساری

○ کومسیونجی: آڑھتی بیوپاری

○ کومودینو: بیڈ کے پہلو کی میز

○ کومیدیا: طربیہ، بزمیہ، کامیڈی Comedy

کون: ۱۔کَانَ یَکُوْنُ کَوْنًا و کِیَانًا و کَیْنُوْنَۃً الشیئُ: نو پید ہونا، واقع ہونا، پایا جانا، ہونا۔کان افعال ناقصہ میں سے ہے مبتداء اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور خبر کو مبتدا کے لئے ثابت کرتا ہے اور مبتدا کو کان کا اسم کہا جاتا ہے، جیسے کان زیدٌ قائما اور کبھی تامہ ہوتا ہے فقال اللّٰہ لِیَکُنْ نُوْرٌ فَکَانَ نُوْرٌ اور یہ ثَبَتَ کے معنی میں آتا ہے جیسے کَانَ اللّٰہُ وَلَا شَیْئَ مَعَہٗ اور حَضَرَ کے معنی میں بھی جیسے وَاِنْ کَانَ ذُوْعُسْرَۃٍ فَنَظِرَۃٌ اِلٰی مَیْسَرَۃٍ اور وَقَعَ کے معنی میں جیسے مَاشَاءَ اللّٰہُ کَانَ اور یَنْبَغِی کے معنی میں جیسے مَاکَانَ لَکُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَھَا: اور استقبال کے معنی کے لئے جیسے یَخَافُوْنَ یَوْمًا کَانَ شَرُّہٗ مُسْتَطِیْرًا اور زمانہ ماضی کے لئے جیسے کَانَ فِی الْمَدِیْنَۃِ تِسْعَۃُ رَھْطٍ زمانہ حال کے لئے جیسے کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اور کبھی دوام واستمرار کا فائدہ دیتا ہے جیسے کَانَ اللّٰہُ غَفُوْرًا رَحِیْمًا اور کہاجاتا ہے صَارَ اِلٰی کَانَ یعنی مرگیا، تثنیہ اور جمع میں کہاجاتا ہے صَارَ اِلٰی کَانَا اور صَارُوْا اِلٰی کَانُوْا اور کُنْتُ الکُوْفَۃَ یعنی میں کوفہ میں تھا۔مَنَازِلُ اَقْفَرَتْ کَاَنْ لَمْ یَکُنْھَا اَحَدٌ: منازل خالی ہوگئے گویا جیسے کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، وکُنَّاھُمْ بمعنی کُنَّا لَھُمْ دَخَلَ الامرُ فی خبر کان یعنی معاملہ گزر گیا۔کَوَّنَ تَکْوِیْنًا الشیئَ: کو پیدا کرنا، ایجاد کرنا۔تَکَوَّنَ: پیدا ہونا، ایجاد ہونا۔الکَائِنُ (فا): ہونے والا، واقعہ، حادثہ۔الکَائِنَۃُ ج کَائِنَاتٌ و کَوَائِنُ: الکائن کا مونث، حادثہ۔الکَائِنَاتُ: موجودات۔الکَوْنُ (مص) عالم وجود۔الکَوْنِیُّ: کَوْنٌ کی جانب منسوب۔الکُوْنِیُّ: لمبی عمر والا۔الکِیَانُ (مص): طبیعت فطرت۔التَّکْوِیْنُ: معدوم کو عدم سے وجود میں لانا۔سِفرُ التکوین: بائبل کی پہلی کتاب (موسیٰ کے پانچ سفروں میں سے پہلا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المو‌سوم کتاب پیدائش)ــــ ج تکاوِینُ: صورت، ہیئت۔الکُنتِیُّ ج کُنتِیُّونَ و الکُنتُنِیُّ ج کُنتُنِیُّونَ، عمر رسیدہ گویا کہ وہ اپنے قول۔کُنتُ فِی شَبَابِیْ کَذَا و کَذَا: کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تم کہتے ہو۔اَصبَحتُ کُنتِیًّا: یعنی میں بڑی عمر والا ہوگیا، کُنتُنِیُّ میں نون وقایہ ہے تا کہ ضمہ ظاہر ہو جائے جس طرح کہ ضَرَبَنِیْ میں فتح ظاہر ہونے کے لئے نون لاتے ہیں۔المَکَانُ ج اَمَاکِنُ و اَمکِنَۃٌ و اَمکُنٌ: (اخیر والا نادر ہے) کسی شئے کے ہونے کی جگہ۔المکانۃ جمع مَکانات: موضع، جگہ، مرتبہ۔کہا جاتا ہے۔مَکُونٌ فِیہِ: یعنی اس میں موجود۔المَکِینُ: مرتبہ والا، کہا جاتا ہے۔فُلَانٌ مَکِینٌ عِندَ فُلَانٍ: فلاں فلاں کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے۔

۲۔کَانَ یَکُونُ کَونًا و کِیَانًا علی فلان: کا ضامن ہونا، ذمہ دار بننا۔کُتَانَ اِکتِیَانًا بفلان و علیہ: کا ضامن ہونا، ذمہ دار بننا۔الکِیَانَۃُ: کفالت۔

۳۔تکَوَّنَ: متحرک ہونا۔

۴۔اِستَکَانَ اِستَکَانَۃً لفلان: سے فروتنی کرنا، عاجزی کرنا۔

۵۔کَیوَانٌ (فلك) فارسی میں زحل کا نام۔

○ کَانَ ـُ کَونًا و کِیَانًا و کَینُونَۃً: ہونا، واقع ہونا۔کان لـ: کا ہونا، کا حق ہونا، کی ملک ہونا، کا رکن یا فرد ہونا۔کان لہ بیتٌ: اس کا ایک گھر تھا، وہ ایک گھر کا مالک تھا۔ــ لـ: کے لئے صحیح آدمی ہونا، کا اہل ہونا۔ــ من: کے متعلق ہونا، کا جزو ہونا۔ــــ علی: کا فرض ہونا، پر واجب ہونا، لازم یا لازمی ہونا۔ــ اِلی: کو دینا، سونپا یا تفویض کیا جانا، کا حصہ ہونا، پر چھوڑا جانا۔علی اَتَمِّ ما یکون: انتہائی قابل فہم مکمل انداز میں، مکمل طور پر ممکن۔اقوالھم اقرب ما تکون اِلی الصواب: ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، صداقت کے بڑی حد تک قریب ہیں۔لم یکن لـ یما کان لـ: وہ کیلئے صحیح آدمی نہیں ہے یا نہ تھا، وہ کا اہل نہ تھا، کے قابل نہ تھا، غالبًا ہونے والا نہیں یا نہ تھا۔لم یکن لِیَصعُبَ علیہ أنَ: اس کے لئے مشکل نہ ہوتا کہ وہ، کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ نہ کر سکتا۔ما کان منہ الا ان یلم یکن منہ الا ان: اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ...... کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ نہ تھا مگر یہ کہ...... اس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ما کان لہ ان: اس کے لئے کچھ کرنا، ناممکن ہے یا تھا۔وہ کے قابل نہیں یا نہ تھا۔اُصبحَ فی خبرِ کان: غائب ہو جانا، کھو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، تقویم پارینہ ہونا، متروک ہونا، ماضی سے متعلق ہو جانا۔کان و کان: رباعیوں پر مشتمل نظم کی ایک مقبول صورت۔کَوَّنَہ: کو بنانا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، صورت دینا، کی تشکیل کرنا۔تَکَوَّنَ: پیدا ہونا، صورت پانا، وجود میں آنا، بننا، صورت پذیر ہونا، ظہور میں آنا، بڑھنا، پختگی یا تکمیل کو پہنچنا۔ــــ من: سے تیار ہونا، پر مشتمل ہونا، سے بنایا جانا۔اِستَکَانَ: منکسر المزاج ہونا، عاجز ہونا، سخت بری حالت میں ہونا، اطاعت اختیار کرنا، تسلیم کرنا، معافی مانگنا، ذلیل ہونا، مطیع ہونا۔ــ الی: کا ہو رہنا۔کَون جمع اَکوان: وجود، زندگی، ہستی، حادثہ، وقوع۔الکون: دنیا، عالم موجودات، کائنات، کون و مکان۔الکون الاعلی: باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔لِکَونِہِ مجنونًا: کیونکہ وہ پاگل ہے۔مَعَ کَونِہِ مجنونًا: اگرچہ (ہر چند، باوجودیکہ، گو) وہ پاگل ہے۔کَونی: کائنات، نظام کائنات سے متعلق، کائناتی، کونی۔الاشعۃ الکونیۃ: کائناتی شعاعیں، فضائی کرنیں۔نظام کونی: نظام کائنات، کارخانۂ قدرت۔کیان: وجود، ہستی، جوہر، اصل، طبیعت۔الکِیان: مجموعہ، میزان۔مَکان جمع اَمکِنَۃ و اَمَاکِن: جگہ، موقع، محل، جائے وقوع، محل وقوع، عبادت کا ٹکڑا، خطہ، حلقہ، موقع، آبادی (ریل گاڑی کے ڈبہ میں) نشست، حیثیت، اہمیت، وزن، فضائے بسیط، موجودگی، صورت حال، شرائط، حالات۔مَکَانَ ــــ: کی جگہ، کی جائے۔لو کنتُ مکانك: اگر میں تمہاری جگہ ہوتا، اگر میں تو ہوتا۔مکانَہٗ: موقع پر، فورا۔مکانَك: رک جا۔فی کُلِّ مکانٍ: ہر جگہ۔اَخلَی مکانًا: راستہ یا جگہ دینا۔اِحتَلَّ مکانًا مَکینًا: مضبوط حیثیت کا حامل ہونا۔ھو من الشجاعۃِ بمکان: وہ انتہائی بہادر ہے۔ذلك من الأھمیۃ بمکان: یہ بہت اہم ہے۔ھذہ النَظَرِیۃُ مِنَ الضِعفِ بمکان: یہ نظریہ کسی حد تک کمزور ہے۔مکان الشیء من نفسہ: کسی کے لئے کسی چیز کی اہمیت، کسی چیز کی اہمیت جو وہ کسی کے دل میں رکھتی ہو۔مکان الحادث: موقع واردات، کارروائی کا مقام۔اَمَاکِن وَعرَۃ: سخت ناہموار علاقہ۔مَکانَۃ جمع مکانات: جگہ، محل، موقع، حیثیت، اثر، رتبہ، قدر و منزلت، عظمت۔مکانۃ الصدر: برتری، اولیت، سبقت، فوقیت، ترجیح۔مکانی: مقامی، لوکل۔مکانیۃ: مکانیت۔تَکوین: بنانا، تشکیل دینا، صورت دینا، وضع کرنا، تشکیل، پیدائش، تخلیق، آفرینش، ایجاد، ابتدا، آغاز۔ــــ جمع تکاوین: (چٹانوں کی) بناوٹ، ساخت۔جمیل التکوین: خوش شکل، دیدہ زیب۔سِفر التکوین: کتاب پیدائش (بائبل میں)۔تَکَوُّن: ابتداء، آغاز، پیدائش، ظہور، اصل، ابھرنا، سر نکالنا، بڑھنا، بالیدگی، ترقی، ترتیب، بناوٹ۔اِستکانۃ: اطاعت، فرمانبرداری، جمود، خاموشی سے برداشت، دستبرداری، تابعداری۔کائن: شخص، موجود، زندہ، واقع، حسی، وجود، کل ذی روح، حیوان، انسان، بشر، جانور۔ــ جمع کائنات: چیز، موجود، جیتا جاگتا، زندہ۔الکائِن المُطلَق: واجب الوجود، قائم بالذات، حاکم علی الاطلاق، اللہ تعالیٰ۔الکائنات: پیدا شدہ چیزیں، کائنات، کون و مکان، دنیا، دنیا والے۔کائِنًا من کانَ: جو کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی ہو۔کائِنًا ما کان: یہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو۔مُکَوِّن: پیدا کرنے والے، تخلیق کرنے والا۔مُکَوَّن: بنایا ہوا، پیدا کیا ہوا، تخلیق شدہ۔ــ من: سے بنا ہوا، سے مرکب، پر مشتمل، سے تشکیل پایا ہوا، صورت دیا ہوا۔مُستَکِین: ذلیل کیا ہوا، کچلا ہوا، فرمانبردار، اطاعت شعار، انقیاد پذیر، منقاد، راضی برضا۔

○ کونتراتو: اتفاق، موافقت، معاہدہ، عہد نامہ، میثاق، ٹھیکہ۔

○ کَونکُرادتُو: مقروض اور قرض خواہ کے مابین تصفیہ، مصالحت، راضی نامہ۔

○ کُونیَاك: کنیاک: فرانسیسی برانڈی (انگور کی شراب)

کوہ: کَاہَ یَکُوہُ کَوھًا الشیئَ: کا منہ سونگھ کر بو معلوم کرنا۔کَوِہَ یَکوَہُ کَوَھًا: متحیر ہونا۔کَوَّہَ النارَ: آگ بھڑکانا۔تَکَوَّہَ علیہ الامرُ: کیلئے وسیع ہونا اور متفرق ہونا۔

کوی: ۱۔کَوٰی یَکوِیْ کَیًّا فلانًا: لوہے وغیرہ سے کی جلد کو داغ دینا۔ــ الثیاب: کپڑے پر استری کرنا۔ــتِ العقربُ فلانًا: کو بچھو کا ڈسنا، تم کہتے ہو۔کَوَانِیْ بِعَینِہٖ: یعنی اس نے مجھے تیز نظر سے دیکھا۔اَکوٰی اِکوَاءً: زبان سے انسان کو تکلیف پہنچانا۔کَاوٰی مُکَاوَاۃً الرجُلَ: باہم گالی گلوچ کرنا۔اِکتَوٰی: داغ لگنا۔ــ الرجُلُ: اپنے آپ کو داغ لگانا۔اِستَکوٰی فلانًا: سے داغ لگانے کو کہنا۔ــ الرجُلُ: کے داغے جانے کا وقت قریب ہونا۔الکَوَّاءُ: اسم مبالغہ، بد زبان، بہت گالی بکنے والا۔الکَیَّۃُ: کَوٰی سے اسم مرہ، داغ لگانے کی جگہ۔المِکوَاۃُ ج مَکَاوٍ: استری۔المِکوَاۃ و الکَاوِیَاءُ: بکریوں پر نشان لگانے کا آلہ،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کاویا۔

۲۔ کَوّی فی دارہ کُوًی: اپنے گھر میں روشندان بنانا۔

تَکَوّی تَکَوِّیًا الرجلُ: تنگ جگہ میں داخل ہونا اور سمٹنا۔ الکَوُّ و الکَوَّۃُ و الکُوَّۃُ ج کِوَاءٌ و کُوًی و کَوَّاتٌ و کُوَّاتٌ: روشندان، کُوَی النہر: دریا کے نالے۔

۳۔ اِکْتَوَی الرجلُ: اپنی آپ کی تعریف کرنا ان صفات سے جو فی الحقیقت اس میں نہ ہوں۔

کی: کَیْ: حرف تعلیل ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اَنْ مقدرہ کی وجہ سے نصب دیتا ہے جیسے جَاءَ کَیْ یَسْئَلَ یعنی وہ آیا تا کہ سوال کرے، اور مَا استفہامیہ پر داخل ہوتا ہے جیسے کَیْمَ جِئْتَ: یعنی تم کیوں آئے ہو؟ اس صورت میں یہ حرف جر ہوگا، وقف کی صورت میں اس کے ساتھ ھا متصل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کَیْمَہْ جیسا کہ لِمَہْ میں کہا جاتا ہے اور یہ مَا مصدریہ پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے یُرجَی الفتی کَیْمَا یَضُرُّ و یَنْفَعُ۔ اور اَنْ مصدریہ مقدرہ پر وجوبا داخل ہوتا ہے جیسے جِئْتُکَ کَیْ تُکْرِمَنِیْ: میں تمہارے پاس اس لئے آیا کہ تم میرا اکرام کرو اور اکثر اس کا استعمال لام کے بعد ہوتا ہے جیسے جِئْتُ لِکَیْ تُکْرِمَنِیْ۔

○ کَوَی - کَیًّا - کو جلانا، داغنا، جھلس دینا۔ ہ: کو داغنا، پر پکا نشان لگانا۔ — ہ: پر استری کرنا۔ —: (تیزاب وغیرہ) کا جلانا، کاٹنا (بچھو کا) ڈنک مارنا۔ اِکْتَوَی: جلنا۔ داغا جانا، استری کیا جانا، خود کو جلانا، اپنی جلد جلانا۔ کَیّ: جلانا، داغنا، داغنے کا لوہا، استری کرنا، کَیَّۃ: داغ، کَوَّاء: بدگو، مفتری، استری کرنے والا۔ کَوَّایۃ: استری کرنے والی۔ کَوِیۃ: سلوٹ شکن (پتلون کی)۔ مِکْوَاۃ و مَکْوَی جمع مَکَاوٍ: استری، داغنے کا لوہا۔ مُکْوجِی: استری کرنے والا، کَاوٍ: کیمیاوی عمل سے جلانے والا۔ کَی و لِکَیْ: تا کہ (کرنے) کے لئے کی غرض سے۔ کَیْ لا و لِکَیْ لا: تا کہ نہ، ایسا نہ ہو، مبادا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کَیْمَا و لِکَیْمَا: تا کہ۔

○ کیت: ہندوستانی لباس کا سامان۔

کاء: کَاءَ یَکِیْئُ کَیْئًا عن الامر: سے اعراض کرنا۔ الکَاءُ و الکَیْئُ و الکَاءَۃُ و الکَیْئَۃُ: بزدل۔

کیت: کَیَّتَ الوعاءَ: برتن بھرنا۔ — الجھازَ: سامان تیار کرنا اور آسان کرنا۔ کَیْتَ و کَیْتِ۔ اور کبھی کَیْتُ و کَیْتُ مکسورًا کہتے ہیں اور ان سے بات کا کنایہ کیا جاتا ہے تم کہتے ہو۔ قال فُلَانٌ کَیْتَ و کَیْتَ: یعنی فلان نے ایسا ایسا کہا، اور کَیْتَ کَیْتَ واو کے بغیر بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کا استعمال مکرر ہی ہوتا ہے۔

کیح: کَاحَ یَکِیحُ کَیْحًا السیفُ فیہ: میں تلوار کا اثر کرنا، کہا جاتا ہے مَاکَاحَ فِیْہِ السَّیْفُ: یعنی تلوار نے اس پر کام نہیں کیا۔ اَکَاحَ اِکَاحَۃً ہ: کو ہلاک کرنا۔ الکَیِّحُ: سخت، موٹا (مذکر و مونث کیلئے)۔ کَیِّحٌ اَکْیَحُ: سخت موٹا۔

○ کَیْتَ و کَیْتَ اور کَیْتِ و کَیْتِ: فلاں فلاں، ایسا ایسا، اس اس طرح، یوں یوں۔

کید: ۱۔ کَادَ یَکِیْدُ کَیْدًا ہ: سے مکر کرنا، فریب کرنا، کو مکر سکھلانا، سے جنگ کرنا، سے برا ارادہ کرنا۔ الشیئَ: کو تیار کرنا۔ لفلان: کیلئے حیلہ کرنا اور کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ یَکِیْدُ اَمْرًا مَا اَدْرِیْ مَاھُوَ: جبکہ وہ پھسلائے اور فریب دے۔ وَبَلَغُوْا الاَمْرَ الَّذِیْ کَادُوْا یعنی جس امر کا وہ ارادہ کرتے تھے اس کو انہوں نے حاصل کرلیا۔ کَایَدَ مُکَایَدَۃً ہ: سے مکر و فریب کرنا۔ تَکَایَدَ الرجلان: ایک دوسرے کے ساتھ مکر کرنا۔ اِکْتَادَ اِکْتِیَادًا ہ: کے ساتھ حیلہ کرنا، مکر و فریب کرنا۔ الکَیْدُ (مص) ج کِیَادٌ: مکر، خباثت، حیلہ سازی اور کوشش کرنا، لڑائی کیونکہ اس میں بھی حیلہ سازی کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے۔ غَزَا فَلَمْ یَلْقَ کَیْدًا یعنی اس نے لڑائی نہیں کی لَا کَیْدًا وَلَا ھَمًّا: یعنی نہ تو سختی کرتا ہوں اور نہ ارادہ ہی ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو ناپسندیدہ کام پر اکسایا جائے۔ الکَیَّادُ: بہت مکار۔ المَکِیْدَۃُ ج مَکَایِدُ کَادَ سے اسم، مکر، دھوکا، خباثت، فراڈ۔

۲۔ کَادَ یَکِیْدُ کَیْدًا الزندُ: چقماق کا آگ نکالنا۔ — بنفسہ: جان دینا۔ الرجلُ: قے کرنا۔ الکَیْدُ ج کِیَادٌ: قے کرنا۔

○ کَادَ۔ کَیْدًا و مَکِیْدَۃً ہ: کو دھوکا دینا، الو بنانا، حکمت علی سے نیچا دکھانا۔ ل: کسی شخص یا چیز کو ہوشیار جوڑ توڑ سے نقصان پہنچانا۔ ل: کیلئے جال بچھانا، کے زوال کا منصوبہ تیار کرنا، کے خلاف سازش کرنا۔ کَایَدَہُ: بمعنی کَادَہُ: نیز کَایَدَہُ: کے ساتھ دورخی سے کام لینا۔ کَیْد جمع کِیَاد: چال، تدبیر، حیلہ، چالبازی، داؤں، عیاری، دھوکا، داؤ پیچ۔ مَکِیْدَۃ ج مَکَایِد: چال، دھوکا، فریب، تیز کارروائی، چالاک رسائی، ہوشمند پالیسی، داؤں، سازش، سازباز، جوڑ توڑ، تدابیر، خفیہ منصوبے، سکیمیں، اندر ہی اندر گٹھ جوڑ۔

کیر: ۱۔ کَارَ یَکِیْرُ کَیَارًا الفرسُ: دوڑنے میں دم اٹھانا۔ اَکَارَ علیہ یضربہ: کو مارنے لگنا۔ تَکَایَرَا: ایک دوسرے کو مارنا۔ الکِیْرُ ج اَکْیَارٌ و کِیَرَۃٌ: لوہار کی بھٹی۔

الکَیِّرُ: دوڑنے میں دم اٹھانیوالا گھوڑا۔

۲۔ کِیْرِیَالِیْسُوْنُ: یہ یونانی لفظ ہے جو کیر (سید، سردار) اور اَیْسُون (رحم دل) سے مرکب ہے یعنی رحم دل سردار۔

○ کِیر جمع اَکْیار و کِیران: دھونکنی۔

○ کِیرُوسِین: مٹی کا تیل۔

کیس: ۱۔ کَاسَ یَکِیْسُ کَیْسًا و کَیَاسَۃً الغلامُ: زیرک ہونا۔ — فلانًا: پر دانائی میں غالب آنا۔ کَیَّسَ تَکْیِیْسًا ہ: کو زیرک و ذہین بنانا۔ کَایَسَ مُکَایَسَۃً ہ: کا دانائی میں مقابلہ کرنا۔ — ہ فی البیع: کا بیچنے میں مقابلہ کرنا۔ اَکْیَسَ اِکَاسَۃً و اَکْیَسَ اِکْیَاسًا: ذہین اولاد والا ہونا۔ تَکَیَّسَ: دانائی ظاہر کرنا، بتکلف دانا بننا۔ الکَیْسُ (مص) عقل، سمجھ، دانائی، زیرکی، سخاوت، کاموں میں سنجیدگی۔ الکِیَاسَۃُ (مص): مفید چیز کے استخراج کی قدرت۔ الکَیِّسُ ج اَکْیَاسٌ و کَیْسَی مونث کَیِّسَۃ ج کَیَّاسٌ: عقل مند، دانا، اچھی سمجھ بوجھ اور ادب والا، عوام کُوَیِّسٌ کہتے ہیں۔ المُکَیَّسُ: سمجھدار۔ الاَکْیَسُ مونث کُیْسَی و کُوْسَی ج کُیَسٌ: اسم تفضیل عوام اَکْوَسُ کہتے ہیں۔ المِکْیَاسُ ج مَکَایِیْسُ من النساء: وہ عورت جو عقل مند بچوں کو جنم دے۔

۲۔ کَیَّسَ ہ: کو تھیلی یا بٹوہ میں رکھنا۔ الکِیْسُ ج اَکْیَاسٌ و کِیَسَۃٌ: تھیلی، بٹوہ۔ — کِیْسُ البُوْغِ اور اسے کِیْسُ الغُبَیْرَاتِ (ز) بھی کہتے ہیں۔ مستورات الزہر کے خلیوں کی تھیلی دیکھو مستورات الزہر۔

۳۔ الکَیْسُ: جماعت۔ کَیْسَانُ (الف لام کے بغیر) غَدْر کے لئے اسم کہا جاتا ہے دُعِیَ فُلَانٌ کَیْسَانَ: جب کوئی بے وفائی کرے تو اس کے لئے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔

○ کیس: کَاسَ - کَیَاسَۃ: ہوشیار ہونا، طباع ہونا، ہونہار ہونا، زیرک ہونا، چالاک ہونا، ذہین ہونا۔ نفیس ہونا، شاندار ہونا، دلکش ہونا، حسین ہونا، خوبصورت ہونا، خوش انداز، خوبرو ہونا، طرح دار ہونا، وضع دار ہونا۔ کَیْس: ہوشیاری، زیرکی، تیز فہمی، نزاکت، لطافت، باریک بینی، نفاست، دلکشی، خوش اسلوبی، خوبصورتی، دلربائی، خوش وضعی، لطافت۔ کِیس: مذکر و مونث جمع اَکْیَاس و کِیَسَۃ: تھیلا، بورا، تھیلی، بٹوا، ترکی تولیہ۔ کِیس الوسادۃ: تکیہ کا غلاف۔ کِیس الصفراء: پت، صفراء، علی کِیْسِہٖ: اس کے خرچ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پر۔ کَیِّس جمع کَیاس و کَیْسَی مونث کَیِّسَة جمع کِیاس: زیرک، ہوشیار، چالاک، تیزفہم، سمجھدار، دانشمند، شاطر، ماہر، نفیس، تیز، شاندار، خوش پوش، خوش وضع، خوبصورت حسین، دلکش، صاحب طرز، خوش وضع۔ کِیَاسَة: چالاکی ہوشیاری، ذہانت، تیزفہمی، مہارت، زیرکی، داشمندی، کائیاں پن، فراست، خوش اخلاق، شائستگی، تہذیب، حسن، جمال، طرحداری، وضع داری۔ اَکْیَس مونث کُیْسَی و کُوْسَی جمع کِیَس: زیادہ زیرک، زیادہ چالاک، زیادہ ماہر، زیادہ وضع دار، زیادہ شاندار، زیادہ نفیس، زیادہ نفاست پسند۔ کَیَّس و مُکَیِّسَاتِی: مالشیا، جسم کی مالش کرنے والا۔

کیص ا۔ کَاصَ یَکِیْصُ کَیْصًا و کُیُوْصًا و کَیْصَانًا الطعام: کوتنہا کھانا۔ من الطعام والشراب: بہت کھانا پینا، کہا جاتا ہے کُصْنَا عِنْدَہُ مَاشِئْنَا: ہم نے اسکے پاس جو جی میں آیا کھایا۔ الکَیْصُ (مص): سخت بخل، بہت کنجوس۔ رَجُلٌ کِیصٌ و کِیْصَی و کِیُصَی و کَیْصَی: تنہا اترنے والا، تنہا کھانیوالا اور کسی کا خیال نہ کرنے والا۔

۲۔ کَاصَ یَکِیْصُ کَیْصًا و کُیُوْصًا و کَیْصَانًا: کسی چیز سے عاجز ہونا۔

۳۔ کَاصَ یَکِیصُ کَیْصًا و کُیُوْصًا و کَیْصَانًا الرجلُ: تیز چلنا، کہا جاتا ہے: مرّیکیصُ: وہ جلدی سے گزرا۔

۴۔ کَایَصَ مُکَایَصَةً الامرَ والعمل: کی مشق کرنا۔ الکِیَصُ والکِیَصُّ من الرجال: مضبوط پٹھے والا۔

۵۔ الکَیُصُ: گھٹے ہوئے بدن کا پستہ قد۔ الکِیُصُ: پستہ قد اور موٹے ڈھیلے جسم والا، درشت خو، شرارتی۔

کیع: کَاعَ یَکِیْعُ کَیْعًا و کَیْعُوْعَةً عنہ: کے بارے میں بزدل ہونا، سے خائف ہونا، صفت کَاعٍ و کَائِعٌ ج کَاعَةٌ عوام کہتے ہیں کَعِیَ عَنْہُ یعنی سے عاجز آنا۔

کیف: ا۔ کَافَ یَکِیْفُ کَیْفًا الشیئَ: کو کاٹنا۔ کَیَّفَ الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَکَیَّفَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اِنْکَافَ اِنْکِیَافًا الشیئُ: کٹنا۔ الکِیْفَةُ ج کِیَفٌ: کپڑے کا ٹکڑا جس سے دامن کے اگلے حصہ کو پیوند لگائیں۔

۲۔ کَیَّفَ ہٗ: کسی سے حال احوال پوچھنا۔ الشیئَ: کے لئے کیفیت معلومہ بنانا۔ ہٗ فکَیَّفَ: اس نے اسے خوش کیا تو وہ خوش ہوگیا (عامیہ) کَیَّفَ: کسی کیفیت پر ہونا۔ الکَیْفُ عند الحکماء: کسی چیز کی نارل حالت جو نہ تقسیم ہونے کا تقاضا کرے نہ ہی اس کی ذاتی نسبت ہو جیسے سفیدی اور سیاہی۔ عندا العامة: مزاج اور سرور۔ کَیْفَ: اسم مبہم مبنی علی الفتح ہے اور اس کا اکثر استعمال استفہام کے لئے ہوتا ہے جیسے کَیْفَ زَیْدٌ اور کبھی شرط کے لئے آتا ہے کبھی مَا لگاتے ہیں اور کبھی نہیں لگاتے۔ جیسے کَیْفَمَا تَصْنَعْ اَصْنَعْ اور کَیْفَ تَصْنَعْ اَصْنَعْ اور کہا جاتا ہے۔ کَیْفَ لِیْ بِفُلَانٍ: اس کے جواب میں تم کہتے ہو کُلَّ الکَیْفِ جر کے ساتھ مثل دوسرے معربات کے اور فتحہ کے ساتھ اپنی حالت پر برقرار رہتے ہوئے۔ کَیْفِیَّةَ الشیئ ج کَیْفِیَّاتٌ: صفت، حالت۔

○ کَیَّفَ ہٗ: کو صورت دینا، تشکیل کرنا، بنانا، کی صورت بنانا، (سانچے میں ڈھال کر) بناتا۔ ہٗ/نفسَہٗ: کو اختیار کرنا، ہم آہنگ بنانا، بدلنا، میں ترمیم کرنا، کے مطابق بنانا۔ ہٗ: کو نظام کے تحت لانا، باقاعدہ بنانا۔ ـــــ ہٗ: کو خوش کرنا، محظوظ کرنا، (نشہ کا) کو مخمور کرنا، مدہوش کرنا، حواس باختہ کرنا۔ تَکَیَّفَ: صورت پانا، تشکیل پانا، بننا، شکل اختیار کرنا، بدلنا، مطابق ہونا، خوش ہونا، ہلکا سا مخمور ہونا، مدہوش ہونا۔ ہٗ: تمباکو نوشی کرنا۔ کَیْفَ حالك؟ تم کیسے ہو؟ کیف لا: کیوں نہیں۔ فکیفَ ب: ذرا تصور میں لائیے کتنا زیادہ (یا کم)...... کتنا زیادہ، اور کتنا کم...... کیف ما: کتنا ہی، کیسا ہی۔ کیف ما کان الحال: جو بھی صورت ہو، بہرحال، بہرصورت۔ کَیْف: حالت، مزاج، مزاج کیفیت، ذہن کی حالت، خوشی، اختیار، حق انتخاب، پسند، جمع کیوف: افیون آمیز، خواب آور یا نشہ آور (دوا وغیرہ)۔ علی کیفك: آپ کی مرضی پر، جیسے آپ چاہیں، پسند کریں۔ اصحابُ الکَیْف: جو پائے سرور لوگ، لذت طلب لوگ۔ کَیْفِی: خود مختارانہ، اختیار پر مبنی، سمجھ پر منحصر، اختیاری، کیفیت، کیفیتی، ماہیتی۔ کیفیة: طریقہ، انداز، خاصہ، حالت، جزئیات، تفصیلات، کسی واقعہ کے خاص حالات۔ کیفیة العمل: (مشین وغیرہ کا) چلنا۔ کیفیة الاستعمال: استعمال کی ہدایات۔ تکییف الھواء: ہوا کو صاف کرکے حسب منشاء سرد یا گرم کرنا (air Conditioning)۔ مُکَیِّفَةُ الھواء: ائیر کنڈیشنر۔ مُکَیِّفات: بیہوش کرنے والی دوائیں، نشہ آور چیزیں۔

کیك: الکَیْکَةُ ج کَیَاکِیْ: انڈہ اور اس کی تصغیر: کُیَیْکَةٌ و کُیَیْکِیَةٌ

○ کِیکَہ [illegible]

○ کَالَ ـــِ کَیْلًا و مَکَالًا و مَکِیلًا ہ: کو تولنا، ناپنا، کا وزن کرنا۔ ہ ب: کو ناپ کر سے مقابلہ کرنا، کو کے پیمانہ سے ناپنا، تولنا۔ ہ ل: کچھ کسی کو دینا۔ کَالَ لہ الشتائم: کو ڈھیر ساری گالیاں دینا۔ کَالَ لہ اللَطَمَات: کی پٹائی کرنا۔ کَایَلَ ہ: سے برابر کا بدلہ لینا۔ کَیْل جمع کَیال: پیمانہ، خشک پیمانہ، رکھنے کا ظرف۔ کَیْلَة جمع کَیْلات: ایک خشک پیمانہ۔ کَیْلی و مَکِیل: حجم ناپنے والا۔ کَیَّال: اناج ناپنے والا، صحیح ناپ کا تعین کرنے والا، مالک، آقا۔ الموازین و المکاییل: پیمائش ناپ تول کرنے کے اوزار۔ کِیلو و کیلوجرام جمع کیلو جرامات: کلوگرام۔

○ کِیلُوسِیکَل جمع کیلو سیکلات: کلوسیکل (ریڈیو)

○ کِیلُومِتر جمع کیلو مترات: کلومیٹر۔

○ کیلوواط: کلوواٹ

○ کیلون بمعنی کالون: گیلن۔

کیل: ا۔ کَالَ یَکِیْلُ کَیْلًا و مَکِیْلًا و مَکَالًا القمحَ وغیرہ: گیہوں وغیرہ کو ناپنا، تولنا اور یہ کبھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے جیسے کِلْتُ زَیْدًا الطَّعَامَ: اور کبھی مفعول اول پر لام داخل ہوتا ہے جیسے کِلْتُ لِزَیْدٍ الطَّعَامَ۔

کَالَ الدراھمَ: کو تولنا۔ الشیئ بالشیئ: کا سے اندازہ کرنا کہا جاتا ہے ھٰذَا طَعَامٌ لَا یَکِیْلُنِیْ: یعنی اس پیمانہ کا غلہ میرے لئے کافی نہیں ہے۔ کَیَّلَ تکییلًا القمح وغیرہ: گندم وغیرہ ناپنا۔ کَایَلَ مُکَایَلَةً ہٗ: دوسرے کے قول یا فعل کی مانند کہنا یا کرنا۔ کو گالی دینا اور بڑھ جانا، کہا جاتا ہے۔ کَایَلْتُ فُلَانًا: یعنی اس نے میرے لئے اور میں نے اس کے لئے ناپا۔ دونوں مکایلان کہے جائیں گے اور کہا جاتا ہے کَایَلَ الفَرَسُ الفَرَسَ فِی الجَرْیِ: یعنی ایک گھوڑے نے دوڑنے میں دوسرے گھوڑے کا مقابلہ کیا، اور کہا جاتا ہے۔ کَایَلْنَاھُمْ صَاعًا بِصَاعٍ: یعنی ہم نے ان کو پورا پورا بدلہ دیا۔ تَکَایَلَ الرجلان: گالی اور کینہ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک کا دوسرے کے لئے ناپنا۔ اِکْتَالَ اِکْتِیَالًا منہ وعلیہ: اپنے لئے ناپنا۔ الکَیْلُ (مص) ج اَکْیَالٌ: ناپنے کا آلہ۔ الکَیْلَةُ ج کَیْلَاتٌ: کان سے اسم مرہ، ناپنے کا برتن۔ فی بر الشام: دودھ کا پیمانہ۔ الکِیْلَةُ کَالَ کا اسم اور اسم نوع۔ عرب کی ضرب الامثال میں ہے اَحَشَفًا وَسُوْءُ کِیْلَةٍ: یہ اس وقت بولتے ہیں میں جب کوئی دوسری باتوں کو جمع کرے۔ مراد یہ ہے کہ بری کھجور بھی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اور پھر اس پر بری تول بھی۔ الـکِیَـالَةُ: ناپنے کا پیشہ، ناپنے کی اجرت۔ الـکَیَّـالُ: وہ شخص جو ناپنے کا پیشہ اختیار کرے۔ الـمِکْیَـلُ والـمِکْیَلَةُ ج مَکَایِل والـمِکْیَـالُ ج مَکَـایِیْلُ: جس سے ناپا جائے۔ الـمَکِیْلُ: جسے ناپا جائے۔ الـمَکْیُوْلُ: ناپا ہوا آلَةُ الکَیْلِ: ترازو (عامیہ)

۲۔ کَـالَ یَـکِیْـلُ کَیْلًا الزندُ: چقماق کا بے آگ ہونا۔ کَیَّلَ الرجُلُ: بزدل ہونا۔ تَـکَیَّلَ الرجُلُ: میدان جنگ میں آخری صف میں کھڑا ہونا۔ الـکَیُّـل ج اَکْیَـال: چنگاری جو چقماق سے گرے۔ الـکَیُّـوْلُ: میدان جنگ میں آخری صف، اس کو چقماق کے بے آگ ہونے سے اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ جنگ کی آخری صف میں کھڑا ہونے والا بھی لڑائی نہیں لڑ سکتا) بزدل، اونچی زمین، اونچی جگہ پر کھڑا ہوا۔ نگران۔ و الکَیِّل: چنگاری جو چقماق سے گرے

۳۔ الـکَـال: ایک ٹیڑھا سا ہتھیار جو قلعہ گرانے کے کام آتا ہے (فارسیہ)

۴۔ الـکِیْلُوْسُ: ایک سفید سیال یا دودھ جیسا جو رغبت سے کھائی جانے والی چیزوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔

۵۔ الـکِیْـلُـوْ غـرَام: ایک ہزار گرام کے مساوی وزن (گرام اوقیہ کا بیسواں جزء ہوتا ہے) (یونانیہ)۔

○ کَیْمُوس: معدی ترشہ کیـمیـاء: کیمیا، علم کیمیا۔ کیمیا گری، کیمیا سازی۔ الـکیـمیـاء الإحْیائیة: جاندار اشیاء کی کیمیاء کا سائنسی مطالعہ (Biochemistry) کیـمیـاء التـربة: زرعی کیمیاء۔ کِیـمِی: کیمیاوی۔ کِیـمیائی و کیمیاوِی کیمیائی جمع کیمائیون و کیـماویوی: کیمیادان، دواساز، دوافروش، کیمیا گر، کیماویات: کیمیاوی مرکبات۔

کیم: الکِیْمِیَاءُ والکِیْمِیَا: اکسیر، جس کے متعلق خیال تھا کہ اس سے سونا چاندی بن جایا کرتا ہے۔ عـلـم الـکیمیا او الکیمیا عند القدماء: وہ علم جس سے کسی معدنی چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے بالخصوص اس کو اکسیر کے ذریعے سونے میں تبدیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ (اکسیر حجر الفلاسفہ ہے) یا تمام بیماریوں کے لئے دوا کا استباط ہے۔ عِلـم الکیمیا او الکیمیا عند المتأخرین: وہ علم ہے جس میں اجسام کے طبائع وخواص سے بواسطہ حل وترکیب کے بحث ہو اور نسبت کیلئے کِیْمِی و کِیْمَوِیٌّ کہتے ہیں ج کِیْمِیُّوْنٌ و کِیْمِوِیُّوْنٌ: (یہ دونوں لفظ یونانی ہیں)۔

کیـن: کَـانَ یَکِیْنُ کَیْنًا لفلان: سے فروتنی کرنا۔ اَکَانَ اِکَـانَةً اللّٰـهُ: اللہ کا کسی کو عاجز کر دینا، مطیع کرنا، فرمانبردار بنانا۔ اِکْتَـانَ اِکْتِیَـانًا: غمگین ہونا اور غم کو چھپانا۔ اِسْتَـکَـانَ اس کے لئے دیکھیں (ک، و، ن)۔ الکِیْنَةُ: ذلت وہ سختی، حالت کہا جاتا ہے۔ بَاتَ فُلَانٌ بِـکِیْـنَةِ سُـوْءٍ یعنی اس نے بری حالت میں رات گزاری۔

۲۔ الکَیْنَةُ (ز): بیر بیری کا پھل، ضمانت۔

الکِیْنَا: کونین: بخار کی مشہور دوا۔ (اسپانیہ)۔ شجرة الـکینـا (ن): اس کے متعلق معلومات کے لئے او کالیبتوس دیکھیں۔

○ کینا: کونین: خشب الکینا: سنکونا، کونین کا پیڑ۔ سنکونا کی چھال، کِینِین: کونین۔

کیـه: کَاهَ یَکِیْهُ کَیْهًا فلانًا: کا منہ سونگھ کر بو معلوم کرنا۔ الکَیِّهُ: وہ شخص جو اپنے حیلہ سے عاجز آچکا ہو۔

○ کِیَهك و کِیهَك: قبطی سال کا چوتھا مہینہ۔

○ کَیْوَان: زحل (ستارہ)

○ کِیوبِید: کیوپڈ، کام دیوتا، کام دیو۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ل

ل: تلفظ لام: حروف تہجی کا تیئسواں حرف۔ حرف ابجد میں تیس کے برابر ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ (۱) جار (۲) جازم (۳) غیر عاملہ۔ جار: اسم ظاہر اور یائے متکلم کے ساتھ مکسور اور ضمیر اور مستغاث کے شروع میں مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے (۱) لِزید (زید کے لئے) (۲) مستغاث 'یا' کے ساتھ براہِ راست مربوط ہونے کی صورت میں: جیسے یَالَلّٰہِ (اے خدامدد فرما)۔ (۳) ضمیر کے ساتھ مفتوح: جیسے لَكَ (تیرے لئے) لیکن یا کے ساتھ مکسور جیسے لِی (میرے لئے)۔ اسم پر داخل ہونے کی صورت میں اس کے متعدد معانی ہیں۔ (۱) اِختصاص: جیسے الجنۃُ للمؤمن: جنت مومنین کے لئے خاص ہے۔ (۲) استحقاق: جیسے العِزَّۃُ لِلّٰہ (عزت کا مستحق اللہ ہی ہے) مافی السمٰوٰت وما فی الارض: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان کا مالک اللہ ہی ہے۔ (۴) تبلیغ جیسے قلتُ لہ: میں نے اس سے کہا۔ (۵) تعدیہ جیسے ما اشدَّ حبَّ زید لِعَمرو (زید کو عمرو سے کتنی شدید محبت ہے)۔ (۶) قسم جیسے لِلّٰہِ لأفْعَلَنَّ (خدا کی قسم میں اس کو ضرور کروں گا۔ یعنی واللّٰہ کے معنی میں)۔ (۷) صیرورت جیسے وُلِدَ الإنسانُ لِحیٰوۃٍ أَبدیَّۃ (انسان ہمیشہ کی زندگی کے لئے پیدا ہوا ہے)۔ (۸) الی، علی، فی اور عند اور بعد کے معنی میں۔ اور کبھی زائد بھی ہوتا ہے جیسے ضربتُ لِزید (میں نے زید کو مارا)۔ (۱۰) تعلیل جئتُك لِتُعَلِّمَنِی (میں تیرے پاس آیا تا کہ تو مجھے تعلیم دے)۔ (۱۱) تاکید النفی کے لئے۔ اس صورت میں کان منفی اس سے پہلے آتا ہے اور اس لئے لام الجحود کہلاتا ہے۔ جیسے ما کان زیدٌ لِیُکرِمَكَ (زید تیری تعظیم کے لئے ہرگز تیار نہ تھا)۔ (۱۲) لام جازم اور یہ لام الامر ہوتا ہے اور لامِ طلب کہلاتا ہے اور مکسور ہوتا ہے جیسے: لِیَحْکُمِ اللّٰہ: (خدا فیصلہ کرے)۔ کبھی مفتوح بھی آتا ہے۔ "ف" اور "و" کے بعد متحرک ہونے سے ساکن زیادہ آتا ہے جیسے: فَلْیَستجیبوا لی ولْیُؤْمِنُوبِی پس چاہئے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں) کبھی ثُمَّ کے بعد ساکن ہوتا ہے: ثُمَّ لْیَقْضوا (پھر پورا کریں)۔ (۱۳) غیر عامل لام: ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ یہ یا تو لام ابتداء ہوتا ہے جیسے لَزیدٌ قائم: زید کھڑا ہے)۔ اِنَّ زیداً لقائمٌ: (زید ضرور کھڑا ہے) یا لام جواب جو لو، لولا اور قسم کے بعد آتا ہے جیسے: لَو عُدْتم لعُدْنا (اگر تم واپس ہوتے تو ہم بھی واپس ہو جاتے)۔ لولا زیدٌ لھَلَکْنَا (اگر زید نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے)۔ واللّٰہ لزیدٌ کریمٌ (بخدا زید فیاض ہے)۔ (۴) لام زائدہ: جیسے: اَرَاكَ لَشَاتِمِی (میں خیال کرتا ہوں کہ تو مجھے گالی دینے والا ہے) اسی طرح اسمائے اشارہ سے ملحق لام جو دوری پر دلالت کریں۔ لام جو اصل میں ساکن ہو جیسے تِلْكَ میں، لیکن دو ساکنوں کے اکٹھا آنے کی وجہ سے مکسور ہوتا ہے جیسے ذٰلِكَ میں۔

لا: لا تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ (۱) نافیہ جس کے چار معانی ہیں: اولاً: بمعنی نفی جنس، اس صورت میں اس کا اسم فتح پر مبنی ہوتا ہے، بشرطیکہ مفرد ہو، اور مضاف اور مشبہ بالمضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے جیسے: لا رجُلَ فی الدار (گھر میں کوئی مرد نہیں)۔ لا غلامَ رجُلٍ حاضرٌ (کسی مرد کا نوکر موجود نہیں)۔ ثانیاً: لیس کا عمل کرے تو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور واحد کی نفی کے لئے آتا ہے جیسے: لا رجُلٌ قائِمٌ: کوئی ایک مرد کھڑا نہیں۔ لیس کا عمل کرنے والے لا اور جنس کی نفی والے لا میں فرق یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا رَجُلَ فی الدار: تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بل رجلان او رِجالٌ (بلکہ گھر میں دو یا زائد مرد ہیں)۔ کیونکہ آپ نے گھر میں مردوں کی جنس کی مطلق نفی کر دی تھی۔ جب آپ کہتے ہیں: لا رجُلٌ فی الدار (گھر میں ایک مرد نہیں) تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بَلْ رجُلان او رجالٌ (بلکہ گھر میں دو یا زائد مرد ہیں)۔ کیونکہ لیس کا عمل کرنے والا لا ایک کی نفی کرتا مگر واحد کی سوا کی نفی نہیں کرتا۔ ثالثاً: لا نافیہ عطف کے لئے ہوتا ہے جیسے: جاء زیدٌ لا عَمرو (زید آیا نہ کہ عمرو۔ رابعاً: حرف جواب نعم کا نقیض (یعنی الٹ) جیسے: أَقامَ زیدٌ؟ (کیا زید کھڑا ہے) کے جواب میں کہا جائے گا لا (نہیں)۔ لا ناھیہ: طلب کے لئے اور مضارع پر داخل ہونے سے مخصوص ہے اور اسے جزم دیتا ہے جیسے: لاتخف (مت ڈر) زائدہ کے طور پر آ کر معنی کو تقویت دیتا ہے اور حذف کیا جائے تو معنی میں کوئی خلل نہیں ڈالتا جیسے: ما مَنعَكَ ان لا تَقُومَ جیسے: ما منعك ان تقوم بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ (تجھے کس بات نے روکا کہ تو کھڑا نہ ہوا اور تجھے کھڑا ہونے سے کس بات نے روکا) کا ایک ہی معنی ہے۔

○ ل: سچ مچ، خلوص سے، واقعی، یقیناً، قطعاً، بے شک، لازماً، (اکثر ان کے بعد، مسند یا خبر کو متعارف کراتے ہوئے) جیسے: ان ربی لسمیع الدعاء: میرا پروردگار سچ مچ دعا کو سنتا ہے۔ لو اور لولا کے ساتھ آتے ہوئے جیسے: لو کنتَ تفْعَلُ لکَانَ انفعَ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اگر تم نے یہ کیا تو زیادہ نفع بخش ہوگا۔ لَوْلَا تابَ لَهَلَكَ: اگر وہ توبہ نہ کرتا تو ہلاک ہوجاتا، قسم کا حرف ہونے کی حیثیت سے لَعَمْرُكَ: تمہاری زندگی کی قسم۔ لِ: کیلئے، کی خاطر، کی طرف سے، کی ہمدردی یا پاسداری میں، کے واسطے، کی خاطر، کی وجہ سے، کے سبب سے، کے مقصد کیلئے، کے وقت، جب، کا، از، کی تصنیف، کا لکھا ہوا، مصنفه، بمعنى إلى؛ لي عليه مال: وہ میرا مقروض ہے۔ مَالَهُ و مَا عليه: اس کا حق اور فرض، اس کا سرمایہ اور قرض لـه ان: اسے حق ہے کہ، وہ ایسا کرسکتا ہے، اس کے لئے ممکن ہے کہ، وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ، لیسَ لي أن: مجھے کوئی حق نہیں کہ، یہ میرے لئے مناسب نہیں، مجھ کو زیب نہیں دیتا کہ۔ لكَ ذلك لكَ هذا: تم وہ رکھ سکتے ہو، یہ اب تمہارا کام ہے، یہ کرنا تمہارا کام ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک، منظور: هل لَكَ في يا الَكَ في: کیا آپ پسند کریں گے، کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں۔ قرأتُ له كتابا: میں نے اس کی ایک کتاب پڑھی، میں نے اس کی کتابوں میں سے ایک پڑھی۔ لاتدومُ لَهُ حالٌ: اس کی کوئی حالت بھی پائدار نہیں وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک وہی نہیں ہوتا۔ قَامُوا لِمعاوَنَتِنا: وہ ہماری مدد کرنے لگے۔ لسبعِ ليالٍ خَلَوْنَ مِن شعبانَ: جب شعبان کے مہینہ کی سات راتیں گذر چکی تھیں۔ لِلْمَرَّةِ الأولَى: پہلی بار، مرتبہ، لِاوّلِ وَهْلَةٍ: فوراً، دیکھتے ہی۔ اَخُوهُ لِأبيهِ و اُمِهِ: اس کا پدری اور مادری بھائی، اس کا سگا بھائی۔ ۳۔ تاکہ، (کرنے) کے لئے، کی غرض سے، (حکم یا دعوت کے اظہار کے طور پر) جیسے: لِيَكْتُبْ: وہ لکھے، اسے لکھنے دو۔ 'و' یا 'ف' 'ل' سے پہلے آئے تو وَلْ یا فَلْ پڑھا جاتا ہے۔ لِأجلِ......: کے لئے، کے باعث، کی وجہ سے، کے سبب۔ لان: تاکہ، کہ، (کرنے) کے لئے، کی غرض سے۔ لِئَلَّا: تاکہ نہ، مبادا، ایسا نہ ہو۔ لِأَنَّ: کی بنا پر، چونکہ، اس لئے کہ لِذَلِكَ: اس لئے۔ لِكَي، لِكَيْمَا: کہ، تاکہ (کرنے) کے لئے، کی غرض سے۔ لِمَ: کیوں، کس وجہ سے، کس لئے۔ لماذا: کیوں، کس لئے، آخر کیوں۔ لِهذا: اس لئے، اسوجہ سے۔ لا: نہیں، نہ جیسے: لاتقل: نہ کہو۔ لا اِلَهَ الا الله: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا خيرَ فيه: اس میں کوئی خیر نہیں، یہ اچھا نہیں۔ لا بُدَّمِنْهُ: اس سے کوئی مفر نہیں، یہ اٹل ہے، یہ ناگزیر ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ لا جَرَمَ: يقيناً۔ لَاشَكَّ: کوئی شک نہیں، بلاشبہ۔ لاسِيَّمَا: خصوصاً، خاص کر، بالخصوص۔ اِلَّا: دیکھو۔ بِلا: بغیر۔ وَلا: نہ ہی۔ حتى ولا: نہ ہی، بھی نہیں۔ لم يُعْطِني حتى ولا قِرشاً: اس نے مجھے ایک قرش بھی نہیں دیا۔ لا ...... ولا: نہ (یہ) ......نہ (وہ)۔ لَا أبالِيَه: بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی، نہ اچھا نہ برا رویہ۔ لا اَدْرِيَه: لاادریت، مادہ پرستی، مادیت، شک، ارتیاب۔ اللَّا أنا: معروض، تُو۔ (nonego)(أنا میں (ego) کا الٹ)۔ لا انانية: بے نفسی، بے غرضی جس میں خودغرضی نہ ہو۔ لاجِنسِيَة: بے قومیت۔ (state lessness, being without natioality)۔ لادینی: مذہب دشمن، لامذہب، بے دین۔ لادینية: مذہب سے بیگانگی یا دشمنی، کفر۔ لَا سامِي: سامی نسل کا مخالف، یہودیوں کا مخالف، یہودیوں کے خلاف۔ لَاسَامِيَة: سامی نسل کی مخالفت۔ لاسِلكِي: بے تار برقی، ریڈیو (صفت)، ریڈیو، براڈ کاسٹنگ، ریڈیو پیغام، نشریہ۔ اشارة لا سِلكِيَة: ریڈیو پیغام، لاسلکی پیغام۔ اللَّا شعُور: تحت الشعور، لاشعور، بیہوش، بے ہوشی، بے خبری، لاشعوری: بیہوش، بے خبر۔ غافل لَاشَيْ: نیستی، فنا، عدم۔ لاشَيْ: کچھ نہیں۔ لاشَيْئِيَة: لاوجود، نیستی، عدم، فنا، عدمیت۔ لاشیت: بے حقیقت چیز، معدومیت۔ لامُبَالاة اور لامُبالِية: بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی، نہ اچھا نہ برا رویہ۔ لامرکزية: مرکزیت کو توڑ دینا، مقامی اقتدار قائم کرنا۔ لامسئولية: بے پروائی، غیر ذمہ داری۔ لانظام: نظام کا فقدان گڑبڑ، ابتری، بے ترتیبی۔ اللَّانِهَايَة: ذات لامحدود۔ لانِهَائي: لامحدود، لامتناہی۔ اللاتِين: قدیم لاطینی لوگ۔ لاتيني: لاطینی۔ الحی اللا تيني: پیرس کا ایک محلہ۔ اللاتينية: لاطینی زبان، لاطینی (نسل یا زبان کا)، لَادِن: افیون کا ست، افیون کا آمیزہ، الکحل اور افیون کا محلول۔ لَازُوَرْدُ: آسمانی، نیلا آسمانی، نیلگوں۔ لازوردی: نیلا آسمانی، نیلگوں، لاجوردی۔ لازُوَرْدِيَه: آسمانی، آسمان کا نیلا رنگ۔ لامِيَه: ڈوری، فیتہ۔

لاب: المُلْتَبِب: سیدھا۔

لات: لاتَ: یہ حرف نفی لیس کا معنی دیتا ہے۔ اس کا صرف ایک معمول ہی ذکر کیا جاتا ہے اور اسم عموماً محذوف ہوتا ہے اور خبر مذکور ہوتی ہے۔ جیسے: نَدِمَ البُغَاةُ وَلَاتَ ساعةَ مَنْدَمٍ۔ باغی نادم ہوئے مگر اس وقت جب ندامت کا وقت نہ رہا تھا۔ لات ساعةَ مندمِ کا معنی ہے لاتَ الساعةُ ساعة مندم)۔

لاز: اللازَوَرْد: لاجورد۔ اللاز وردی: لاجوردی، نیلا، آسمانی نیلا۔

لاط: لَأَطَ ۔لَأطًا هُ: پرزور دے کر حکم دینا۔ ـهُ بسهم: کو تیر مارنا۔ ـهُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ـــ على فلان: پر سختی کرنا ـــ فلانٌ في مررِهِ: کسی طرف دیکھے بغیر جلدی جلدی بھاگتے ہوئے گزرنا۔ ـ فلاناً: کا نظروں سے اوجھل ہونے تک نگاہوں سے تعاقب کرنا۔

لأظ: لَأَظَ ۔لَأْظًا هُ: کو اداس کرنا، دھتکارنا، کی مخالفت کرنا۔ ـــ فلاناً في التقاضي: پر ادھار کی ادائیگی میں سختی کرنا۔

لأف: لَأَفَ ۔لَأْفًا الطعامَ: کھانا اچھے طریقے سے کھانا۔

لأك: الَآكَ اِلاكَةً هُ اِلي فلان: کو پیغام پہنچانا۔ کہا جاتا ہے: اَلِكْنِي إلى فلان: میرا پیغام اس کو پہنچا دو (اصل میں الآك ہے)۔ اِسْتَلْأَكَ لَهُ: کے پاس پیغام لیجانا۔ المَلْأَك: پیغام۔ ـــ جمع مَلائِكة و مَلائِك و املاك: پیغام رساں فرشتہ (مفرد مَلَاك اور جمع مَلَئِكَة بھی لکھا جاتا ہے)۔ المَلَك: بمعنى المَلْأك ــ في الحسب: گرد کے اوپر۔ المُلْأَكَة: پیغام۔

○ مَلائِكي: فرشتوں سے متعلق، حسین اور معصوم، آسمانی، مقدس، قدوسی، پیکر حسن وخوبی۔

لأل: لَأْلَأ لَأْلَأَةً النجمُ او البرقُ: ستارہ یا بجلی کا چمکنا۔ ـ تِ النارُ: آگ کا بھڑکنا ــ الدمعَ: آنسو بہانا۔ ـــ الثورُ بذنَبِه: بیل کا دم ہلانا ـــ ت النوَائحُ: بین کرنے والی عورتوں کا ہاتھوں کو اوپر نیچے کرنا۔ تَلَألأَ النجمُ و البرقُ و النارُ: ستارہ، بجلی اور آگ کا چمکنا ـــ وجهُهُ: چہرہ کا دمکنا، روشن ہونا۔ اِللَئالَة: موتی جڑنے کا پیشہ۔ اللَألاء: بہت زیادہ خوشی، موتی بیچنے والا۔ لألاءُ السراج: چراغ کی روشنی۔ اللأال و اللأّاء: موتی فروش۔ اللُؤلُؤ واحد لُؤلُؤة جمع لآلِي: موتی۔ اللُؤلُئِيّ واللُؤلُؤان: موتی کے رنگ کا۔ اللُؤلُؤيَّة (ن): ایک قسم کا پودا جو باغوں میں اس کے خوبصورت پھولوں کی وجہ سے اگایا جاتا ہے۔ اس کو اَسْطَرَ الصين بھی کہتے ہیں۔

○ لألأ لألأةً: چمکنا، روشن ہونا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا، دمکنا، جھلکنا، جھلملانا، ٹمٹمانا، شعاعیں نکالنا۔ لألأ بذنبه: دُم ہلانا۔ تلألأ: چمکنا، دمکنا، روشن ہونا، شعلہ فشاں ہونا، جھلملانا، ٹمٹمانا۔ لألأة: چمک، دمک، تمتماہٹ، جھلک، جھلکیاں، جگمگاہٹ، جھلکا، کرن،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آب و تاب، طباعی، درخشانی، تابانی۔ لَأْلَاء: چمک، دمک، شعلہ، کامل خوشی، پرسکون، شادمانی، موتیوں کا تاجر۔ لُؤلُؤ (اسم جنس واحد لُؤلُؤۃ) جمع لآلِي موتی۔ زَهْرُ اللُّؤلُؤ: ڈیزی(daisy)۔ لُؤلُؤِی: موتی کی طرح کا، موتی کا، صاف شفاف، موتی رنگ کا، سفیدی مائل۔ تَلَأْلُؤ: چمکنا، دمکنا، درخشانی، تابانی، تابندگی، چمک، آب و تاب، طباعی، ذہانت۔ مُتَلَأْلِئ: ٹمٹماتا، چمکتا، دمکتا ہوا، شعلہ فشاں۔

لأم: ا۔ لَأمَ ـِـ لَأْمًا و لَأَّمَ تَلْئِيمًا السهمَ: تیر پر پر لگانا ـــ الجرحَ: زخم کی مرہم پٹی کرنا...... و الْأَمَ إلْآمًا الشيءَ: کو درست کرنا، کو اکٹھا کرکے باندھنا ـــہ الشيءَ: چیز کا کے موافق ہونا...... بين القومِ: قوم میں صلح کرانا۔ تلاءَمَ الشيءُ الفاسدُ: خراب چیز کا درست ہونا۔ لَأْمَهٗ ای دِرْعَهٗ: زرہ پہننا۔ تَلَاءَمَ الشيءُ الفاسدُ: خراب چیز کا درست ہونا۔ اِلْتَأَمَ الفاسدُ: خراب کا درست ہونا ـــ الشيءُ: آپس میں چمٹ جانا، مل جانا، جڑ جانا ـــ الجرحُ: زخم کا انگور لانا اور اچھا ہو جانا یا بھر جانا ـــ القومُ: لوگوں کا مجتمع ہونا ـــ الشيئانِ: یکجا ہونا، متحد ہونا، اکٹھا ہونا، ملنا، جڑنا ـــ الفريقانِ: دو فریقوں کا آپس میں صلح کرنا، مل جانا۔ اِسْتَلْأَمَ اِسْتِلْآمًا: زرہ پہننا۔ کہا جاتا ہے: هو لِئَامُهٗ: وہ اس جیسا ہے۔ اللَّأْمُ (مص) جمع اللَّأْمَةُ: زرہ۔ ہر سخت چیز۔ کہا جاتا ہے: شيءٌ لَأْمٌ: مجتمع شے، جڑی یا ملی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے: سهمٌ لَأْمٌ: پردار تیر۔ اللَّأْمَةُ جمع لُأَمٌ و لُؤَمٌ: زرہ۔ اللِّئَمُ تلوار۔ لوگوں میں اتفاق ـــ جمع الام و لِئَام: مثل، مانند۔ اللُّمَةُ جمع لُمَات: مثل، مانند۔ کہا جاتا ہے: هو لُمَتِي: وہ مجھ جیسا ہے، میرا ہمشکل ہے۔) تین سے دس تک لوگوں کا گروہ۔ اللُّؤمَةُ: دوسروں کے کام کی نقل کرنے والا، وہ چیز جس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس میں بخل سے کام لیا جائے، کاشت کاری کے اوزار۔ المُلَأَّم: زرہ پوش۔

۲۔ لَأَمَ ـُـ لُؤْمًا و لَأَّمَ تَلْئِيمًا الرجلَ: کو کمینہ کہنا۔ لَؤُمَ ـُـ لُؤْمًا و مَلْأَمَةً و لَآمَةً: کمینہ ہونا، بخیل وحریص ہونا، ذلیل ہونا صفت لَئِيم جمع لِئَام و لُؤَمَاء۔ اَلْأَمَ الرجلُ: کمینی اولاد جننا، ایسا کام کرنا جس پر لوگ اسے کمینہ کہیں، کمینہ پن کرنا۔ اِسْتَلْأَمَ اِسْتِلْآمًا: کمینوں میں شادی کرنا ـــ أَصْهَارًا: کنجوس داماد بنانا۔ ...... الأبَ: کنجوس یا کمینے باپ والا ہونا۔

اللَّأْمَانُ و اللُّؤْمَانُ: طبعاً کمینہ۔ دنی الطبع۔ (نداء سے مخصوص ہے)۔ اللَّئِيمُ جمع لِئَام و لُؤَمَاء: بخیل، کنجوس، کمینہ اصل والا، طبیعت کا رذیل، ذلیل۔ المَلْأَم و المِلْأَم و المِلْآم: کمینوں کی عذر خواہی کرنے والا، بحالت نداء کہا جاتا ہے: یا مَلْأَمُ بمعنی یا لَئِيمُ۔ اللَّأْمَانُ: نداء سے خاص ہے بمعنی المَلْأَمَانُ: کہا جاتا ہے یا مَلْأَمان بمعنی یا لَئِيمُ۔ رجلٌ مُلَأَّمٌ: کمینہ۔ المُلْئِم: بخیل، کمینہ، لئیم لوگوں سے میل جول رکھنے والا۔

۳۔ اِسْتَلْأَمَ اِسْتِلْآمًا الحجرَ الأسودَ: حجر اسود کو چومنا۔

۴۔ اللَّأْمُ: شخص۔ اللِّئْمُ: شہد۔ اللُّؤَامُ: حاجت، ضرورت، کہا جاتا ہے: لِي عنده لُؤَامٌ: میری اس کے پاس ضرورت ہے، مجھے اس سے کام ہے۔

○ لَأَمَ ـَـ لَأْمًا ہ: (زخم) کی مرہم پٹی کرنا، پر پٹی باندھنا ـــ ہ: کی مرمت کرنا، اصلاح کرنا، ٹانکا لگانا، جھالنا کی ویلڈنگ کرنا، کو تپا کر جوڑنا۔ لَؤُمَ ـُـ لُؤْمًا و لَآمَةً و مَلْأَمَةً: کمینہ ہونا، کم اصل ہونا، رذیل ہونا (کردار و پیدائش کا)، گھٹیا، رذیل یا پست ہونا، کمینہ، نیچ یا ذلیل ہونا، خراب ہونا، گندا ہونا، برا ہونا، بد ہونا، گنہگار ہونا، بدکار ہونا، فاسق ہونا، بداعمال ہونا، بدطینت ہونا۔ لَاءَمَ ہ: سے متفق ہونا، (لباس کا) پر پھبنا، سجنا، اچھا لگنا، کو فٹ آنا ـــ ہ: کے مناسب ہونا، کیلئے موزوں ہونا، کے مطابق ہونا، کیلئے برجستہ و برمحل ہونا، کافی ہونا، کے مطابق بننا، سے ہم آہنگ ہونا، کا سے میل کھانا، کے لئے موزوں ہونا ـــ ہ: آب وہوا، خوراک کا، کو راس آنا، کیلئے صحت بخش ہونا ـــ بين: کے درمیان صلح کرانا، مصالحت کرانا ـــ بين و ـــ: کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا ـــ بين: (مختلف چیزوں) کو ہم آہنگ کرنا، کو موزوں کرنا، موافق کرنا۔ اَلْأَمَ: کمینگی سے کرنا، رسوا کن رویہ اختیار کرنا۔ تَلَأَّمَ: اصلاح ہونا، مرمت ہونا، درست ہو جانا ـــ مع: کے ساتھ ٹھیک چلنا۔ تَلَاءَمَ: کمینگی سے کرنا۔ اِلْتَأَمَ: اصلاح ہونا، مرمت ہونا، ٹھیک ہو جانا، مل جانا، جڑ جانا، منسلک ہو جانا، ویلڈنگ ہو جانا، تپ کر جڑ جانا، ٹانکا لگنا، جوڑ ہونا، برابر کا جوڑ ہونا، باہم فٹ ہونا، ہم آہنگ ہونا، موزوں ہونا، موافق ہونا، آرام دہ ہونا، مطابق ہونا، سُر ٹھیک ہونا، خوب رواں ہونا، مل جانا، جڑ جانا، متحد ہو جانا، (زخم کا) بند ہو جانا، ٹھیک ہو جانا؛ (لوگوں کا) اکٹھا ہونا، جمع ہونا، (کمیٹی وغیرہ کا) اجلاس [illegible]

مل جانا، اتصال، تعلق، رابطہ، پیوند، مرمت۔ لُؤْم: کمینہ ذہن، حرامی پن، کمینہ پن، پاجی پن، رذالت، کمینگی، دنائت، بدمعاشی، خباثت، ذلت، تنگ دلی، کنجوسی، بخل، خست، سیاہ کاری، بداعمالی۔ لِئَام: صلح، اتفاق، ملاپ، ایکا، سنجوگ، موافقت، اتحاد، یگانگت، یکجہتی، ہم آہنگی، مطابقت۔ لَأْمَة: چار آئینہ (زرہ کا چھاتی والا حصہ)۔

لأی: ا۔ لَأَى يَلْأَى لَأْيًا: دیر لگانا، رکنا۔ اَلْأَى اِلْآءً: مصیبت ومحنت میں پڑنا۔ اِلْتَأَى اِلْتِئَاءً: دیر کرنا، تنگ گزران اور مفلس ہونا۔ اللَّأْيُ و اللَّأْيُ و اللَّأْوَاءُ: سختی، تکلیف، رنج۔

۲۔ اللَّأَى: ڈھال...... م لَآة جمع أَلْآء (ح): جنگلی بیل۔

لام: حرف لام (ل)۔ لَامِي: دل کی شکل کا، حرف ل جیسا۔ لاما: امریکی اونٹ (lama, liama)

لانش جمع لانشات: لانچ (launch)، موٹر بوٹ، چھوٹا سٹیمر۔ لَاهَاي: جنوب مغربی نیدرلینڈ کے شہر کا نام (The Hague)۔ لاهوت: اللہ تعالیٰ، خدا، دیوتا، دیوی، خدائی، الوہیت، علم اللاهوت: دینیات، علم کلام۔ لَاهُوتِي: دینیاتی، عالم دین، ماہر دینیات، متکلم۔ اللَّاهُوتِيَّة: دینیات، علم کلام۔

لاهور: (مغربی پاکستان کے ایک شہر کا نام)۔ لَأْوَاء: سخت مصیبت، تنگی، مشکل۔ لَأْيٌ: آہستگی، سستی، بار خاطر ہونا، ناگوار ہونا، تکان، اکتاہٹ۔ بعد لَأْيٍ: بڑی مشکلوں کے بعد بالآخر، آخر کار، بہرحال۔

لَايِكِي: غیر مُلا، غیر پادری، غیر ماہر (layman)، لادینی، غیر مذہبی (secular)، دنیا دار، اناڑی، غیر ماہرانہ، اناڑیوں کا سا، غیر کلیسائی، عام آدمی، غیر مذہبی۔ لَايِكِيَّة: غیر مذہبیت۔

لبّ: ا۔ لَبَّ ـِـ لَبًّا بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ اَلَبَّ بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا ـــ على الأمر: کام کرتا رہنا ـــ له الشيءُ: کو پیش آنا۔ کہا جاتا ہے: دارُ فلانٍ تُلِبُّ داري: فلاں کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اللَّبُّ م لَبَّة جمع لِبَاب: مہربان، لوگوں کے قریب رہنے والا۔ رجلٌ لَبٌّ على الأمر: کام کرتے رہنے والا مرد۔ امٌّ لَبَّةٌ: محبت کرنے والی، مہربان ماں کہا جاتا ہے: لَبَابِ لَبَابِ: کوئی حرج نہیں۔ رجلٌ لبيبٌ جمع أَلِبَّاء م لَبِيبَة جمع لَبِيبَات و لبائب: کام پر لگا رہنے والا مرد۔ کہا جاتا ہے: لَبَّيْكَ بمعنی إلبابًا بك بعد إلباب و إقامة على طاعتك بعد إقامة و إجابة بعد ـــ تثنیہ تاکید کیلئے ہے، نصب مفعول مطلق

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہونے کی وجہ سے اور معنی ہے: میں آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں۔

۲۔ لَبَّ ـلبًّا اللَّوْزَةَ: بادام توڑ کر گری نکالنا۔ ــــ الرجُلَ: کے سینہ پر مارنا...... الـدابَّةَ: جانور کے سینہ پر تنگ باندھنا...... ـلبًا و لَبَابَةً: عقل مند ہونا۔ لبِبَ ـ لَبًا و لبًّا و لُبًّا و لَبَابَةً: عقل مند ہونا۔ لَبَّبَ تَلْبِيبًا الحبُّ: دانہ کا گودے والا ہونا۔ ــــ فلانًا: کو گریباں پکڑ کر کھینچنا۔ اَلَــبَّ الـدابَّةَ: جانور کے سینہ پر تنگ باندھنا ــــ السرجَ: زین کا تنگ بنانا۔ تَلَبَّبَ للقتال: لڑائی کے لئے کمر کسنا...... الرجُلان: ہر ایک کا ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر کھینچنا۔ إسْتَلَبَّ زیداً: زید کی عقل کو آزمانا۔ اللُبّ جمع اَلْبَـاب و اَلُبّ و اَلْبُب: سمجھ فہم ہر، چیز کا خالص، فراست، خالص عقل، تیز فہمی، دل، زہر، پھل کا گودا، گری۔ اللبَّة: اسم مرة سینہ کا بالائی حصہ جہاں ہار پہنتے ہیں۔ اللبَب (مص) جمع اَلْباب: سینہ کا بالائی حصہ جہاں ہار پہنتے ہیں۔ سینہ کا اوپر کا حصہ، گھوڑے وغیرہ کے سینہ پر باندھنے کا تنگ، باریک ریت۔ الـلُباب: ہر چیز کا خالص اور منتخب حصہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لُبابُ قومه و هم لُبابُ قومهم و هي لُبابُ قومها: فلاں اپنی قوم کا برگزیدہ ہے، وہ اپنی قوم کے برگزیدہ ہیں، وہ اپنی قوم کی برگزیدہ ہے۔ حسبٌ لُبابٌ و عيشٌ لبابٌ: یعنی خالص حسب و زندگی، گودا، گری۔ اللَبَابَة: لڑائی کے لئے کپڑوں کے اوپر پہننے کا کپڑا۔ اللَبيب جمع اَلِبَّاء م لَبِيبَة جمع لبيبات و لبالب: عقل مند۔ بنات اَلْبُب: دل کی رگیں۔ کہا جاتا ہے: انا اُحبُّك من من بنات اَلْبُبي: میں تجھ سے تہ دل سے محبت کرتا ہوں۔ اَلْبُب کی جمع اَلْاَبب اور تصغیر اُلَيْب۔ الاُلْبُوب: بیر کی گٹھلی۔ التلْبِيب: عقل مند بننا...... جمع تلابيب: گریبان (طوق کے نام سے معروف ہے) کہا جاتا ہے: اخذ بتلابيبه: کو گریبان سے پکڑنا۔ المُتَلَبَّب: ہار کی جگہ۔ المَلْبُوب: اچھا عقل والا۔

۳۔ لَبَّبَ تلبيباً في الامر: میں تردد کرنا۔

۴۔ اللبَب: حال۔ کہا جاتا ہے هو رخيُّ اللبَب: اس کا سینہ کشادہ ہے۔ فلانٌ في لَبَبٍ رخيّ: فلاں خوشحال ہے۔ اللَبَاب: تھوڑی گھاس۔

۵۔ لَبْلَبَت المرأةُ بولدها: عورت کا اپنے بچے سے لاڈ و پیار کرنا......ت الشاة بولدها بعد الوضع: بکری کا اپنے بچے کو پیدائش کے بعد چاٹنا۔ اللَبْلَب و اللُبْلُب: اپنے اہل سے مہربانی کرنے والا، پڑوسیوں سے نیک سلوکی سے پیش آنے والا۔

۶۔ لَبْلَبَ القومُ: متفرق ہونا۔ الـلَبلَبَة عند العامّة: مخلوط کلام۔ ممکن ہے لبلبة کی تحریف ہو۔ لَبَالِبُ الغنم: بکریوں کا شور اور آواز۔

۷۔ الـلَبْلَاب (ن): مختلف قسم کی بیلیں جیسے عشق پیچان۔ لَبْلابُ الحقول: کھیتوں میں اگنے والی ایک نقصان دہ گھاس۔

○ لَبَّ ـلَبًّاب: میں رہنا، اقامت گزین ہونا، ٹھہرنا۔ ...... ـلبـاً: عقلمند، ہوشمند یا زیرک ہونا، معقول ہونا، ذہین ہونا، سمجھدار ہونا۔ لَبَّـبَ: (اناج کا) گودا دار ہونا، گری یا مغز کی صورت میں پکنا، اناج کا گری یا مغز یا گودا بنانا۔ تَـلَبَّـب ل: کے لیے کمر بستہ ہونا، تیار ہونا۔ لُبّ جمع لُبُوب: گریاں، مغز، گودے، پھلوں کا گودا، مغز، بیج دان، مغز، بالکل اندرونی، گہرا، عمیق، قلبی، جوہر، لب لباب، بنیادی نکتہ، اہم بات، خلاصہ، ماحصل، اہم نکات، ست، جوہر، روح، بہترین حصہ جمع الباب: دل، ذہن، عقل، سمجھ، فہم لَبَّة جمع لَبَّات: سینہ کا بالائی حصہ۔ جانور کا گلا وہ جگہ جہاں جانور کا گلا ذبح کرتے ہوئے کاٹا جاتا ہے۔ لِبَّة: سنہری ہار، چمپاکلی۔ لَبَب جمع اَلْباب: سینہ کا بالائی حصہ، جانور کا گلا، جانور کی وہ جگہ جہاں ذبح کرتے ہوئے چھری پھیری جاتی ہے، گھوڑ کا تنگ زیر بند، پیش بند، تنگ بند (وہ تسمہ جو ایک طرف لگام میں اور دوسری طرف چار جامے کے پچھلے حصے میں بندھا ہو)۔ لُبَـاب: لب لباب، جوہر، مغز، بنیادی نکتہ، خلاصہ، ماحصل، روح، بہترین حصہ۔ لُباب خشب: کیسلین cellulose۔ لَبِيب جمع اَلِبَّاء: سمجھدار، معقول، ہوشمند، زیرک ذہین۔ تـلبيب جمع تَلَابِيب: گریبان۔ اَخَذَ بتلابيبه: کا گریبان پکڑنا، کو گریباں سے پکڑنا، کے گریبان کو ہاتھ ڈالنا۔

لبا: لَبَأَ ـلبْأً الشاةَ: بکری کی پیوسی دوہنا ــــ ت الأمُّ ولدَها: ماں کا بچے کو پیوسی پلانا۔ ــــ الزرعَ: کھیتی کو پہلی بار پانی دینا۔ ــــ القومَ: لوگوں کو پیوسی کھلانا۔ ــــ اللباءَ: پیوسی (کھیس) کو درست کرنا اور پکانا۔ لَبَّأَ تَلْبِئَةً الشاةُ: بکری کے تھن میں پیوسی اترنا۔ صفت مُلَبِّئ۔ اَلْبَأَ القومَ: لوگوں کو پیوسی کھلانا۔ ــــ اللِبَأَ: پیوسی کو ٹھیک کرنا، پکانا ــــ تِ الشاةُ: بکری کے تھن میں پیوسی اترنا۔ ــــ الجديُ: بکری کے بچے کا خود پیوسی پی لینا۔ ــــ القومُ: لوگوں کے پاس بہت پیوسی ہونا۔ ــــ الفصيلَ: پیوسی پینے کے لئے منہ تھن سے لگا دینا (اونٹنی یا گائے کے بچے کا)۔ اِلْتَبَأَ اللِباءَ: پیوسی پینا۔ ــــ الشاةَ: بکری کی پیوسی دوہنا۔ ــــ واسْتَلْبَأَ الجديُ الشاةَ: بکری کے بچے کا خود پیوسی پی لینا۔ الـلِبَـأ: پیوسی، کھیس، پہلا دودھ۔ اللَبْأَة و اللَبَأَة واللَبُؤَة و اللَبْوَة و اللَبُوَة و اللِبْوَة واللَبَة واللَباة واللَبُ جمع لَبَآت و لَبَاء و لَبُو و لَبُؤَات (ح): شیرنی۔

۲۔ لَبَّأَ تَلْبِئَةً بالحجّ: لَبَّيْكَ اللهمَّ لبَّيْكَ کہنا۔ (ناقص یائی سے لَبَّى تَلْبِيَةً کی طرح۔ اس کی اصل ہمزہ نہیں بلکہ یاء ہے)۔

لبت: لَبَتَ ـلَبْتًا يدَهُ: کا ہاتھ مروڑنا...... فلانًا: کے سینہ، پیٹ اور کمر پر لاٹھی مارنا۔

○ لُبَتَة: ایک مچھلی جو عام طور پر تالابوں میں پائی جاتی ہے۔

لبث: لَبِثَ ـلَبْثًا و لُبْثًا و لَبَثًا و لَبَاثًا و لُبَاثًا و لَبَاثَةً و لَبَثَانًا و لَبِيثَةً بالمكان: جگہ پر ٹھہرنا، اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے: مالَبِثَ انْ فَعَلَ كذا: اس نے ایسا کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ لَبَّثَ و اَلْبَثَ فُلانًا في المكان: کو جگہ میں ٹھہرانا، مقیم کرانا۔ تَلَبَّثَ بالمكان: کسی جگہ ٹھہر جانا۔ إستَلْبَثَهُ: کو سست پانا، سست سمجھنا۔ اللابِث و اللبِث بالمكان: جگہ میں مقیم، اقامت رکھنے والا، ٹھہرنے والا۔ اللُبْثَة: تھوڑا سا قیام۔ اللَبِيثَة (مص) لَبَائِث: مختلف قبائل کی جماعت۔

○ لَبِثَ ـلَبْثًا و لُبْثًا و لُبَاثًا: پس و پیش کرنا، تامل کرنا، ہچکچانا، ٹھہرنا، اٹکنا، پیچھے رہنا، توقف کرنا، دیر لگانا، رہنا، منتظر رہنا، دیر میں آنا، یا پہنچنا، کاہلی کرنا......ہ ب: (ایک جگہ) میں رہنا، ٹھہرنا، جمے رہنا۔ لَبِث يفعله: وہ کچھ دیر یہ کام کرتا رہا۔ مالَبِثَ (لم يَلْبَثْ) أن (حتى): اس نے فوراً، وقت ضائع کئے بغیر، جلد ہی (کچھ کیا)۔ تَلَبَّثَ: ہچکچانا، پس و پیش کرنا، تامل کرنا، توقف کرنا، دیر لگانا، رہنا، ٹھہرنا، اقامت کرنا۔ لَبْث و لُبْث و لَبَث: ہچکچاہٹ، پس و پیش کرنا، توقف، تاخیر، دیر، اقامت، عارضی اقامت، قیام۔ لُبْثَة: تھوڑی سی دیر، مختصر وقفہ، توقف، پس و پیش، رکنا، ٹھہرنا، توقف کرنا، عارضی قیام، عارضی ٹھہراؤ۔

لبج: لَبَجَ ـلَبْجًا به الارضَ: کو زمین پر پچھاڑ دینا، پٹک دینا۔ کہا جاتا ہے: لُبِجَ بالرجل او البعير: بیماری یا تھکن سے مرد یا اونٹ کا زمین پر گر پڑنا صفت لَبِيج۔ ــــ هُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ اللُبْجَة واللَبْجَة جمع لَبَج و لُبَج: ایک شاخ دار لوہا جس سے بھیڑیے کو شکار کیا جاتا ہے۔ الـلَبَّاج: احمق،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کمزور عقل والا۔

لبح: لَبِحَ ـلَبَحاً و لَبَّحَ و اَلْبَحَ الرجُلُ: مرد کا بوڑھا ہو جانا۔ اللَبَح: سن رسیدہ بوڑھا، بہادری، شجاعت

لبخ: ۱۔ لَبَخَ ـلَبْخاً فلاناً: کو مارنا، کو گالی دینا، کو قتل کرنا۔ لَبَخَ و تَلَبَّخَ جسمُهُ من الضرب: کے جسم پر مار پیٹ کے آثار کا نظر آنا۔ لَابَخَ لِبَاخاً و مُلَابَخَةً ہُ: باہم طمانچے مارنا، ایک دوسرے کو مارنا۔

۲۔ لَبَخَ ـلَبْخاً الرجُلُ: پکڑنے کیلئے حیلہ کرنا...... الشیءَ: کو لے لینا۔

۳۔ لَبَخَ ـلُبُوخاً جسدُهُ: بدن کا بہت گوشت والا ہونا صفت لَبِیخ ۔ لَبَّخَ لَهُ: کو مرہم لگانا۔ پلٹس (poultice) باندھنا۔ (عوام کی زبان میں)۔ تَلَبَّخَ: خوشبو لگانا۔ اللَبُخَة جمع لَبَحات (طب): پلٹس (poultice)، مرہم (عوام کی زبان میں) اللَبِیخ بہت گوشت والا۔ اللبیُخَة: خوشبو کا نافہ۔

۴۔ اللَبخ واحد لَبُخة (ن): ایک درخت جس کے پتے اخروٹ کے پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ پھول سبزی مائل پیلے ہوتے ہیں اور خوشبو دار ہوتے ہیں۔ عموماً مصر میں بویا جاتا ہے۔

○ لَبْخ و لَبَخ (اسم جنس واحد لبخة) کیکر یا ببول کی ایک قسم۔ لَبُخَة جمع لَبُخات: پلٹس (poultice)، ملائم گودا یا مغز، کھال کو نرم کرنے والی مالش کی دوا، اس کا پلاستر یا پھایا۔ لَبِیخ: موٹا، فربہ، جسیم موٹا تازہ، لحیم، چربی دار گوشت دار، گداز۔

لبد: لَبَدَ ـلُبُودًا بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا، ــــ القومُ بالرجُل: کے ساتھ ہونا، کو گھیرنا۔ ــــ بالشیءِ: سے چمٹنا۔ ــــ الشیءُ بالشیء: ایک دوسرے سے گتھ جانا ــــ الثوبَ: کپڑے میں پیوند لگانا۔ ــــ ـلَبْداً الصوفَ: اون کا نمدہ بنانا۔ لَبِدَ ـلَبَداً بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ لَبَّدَ الصوف: اون کا نمدہ بنانا۔ ــــ الشیءُ: نمدہ کی طرح ہونا۔ ــــ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو تر کرنا۔ ــــ شَعَرَهُ: کے بالوں کو گوند وغیرہ سے چپکا کر نمدہ نما کرنا۔ ــــ الكساءَ و غيرَهُ: لباس وغیرہ کو پیوند لگانا۔ اَلْبَدَ بالارض: زمین سے چمٹنا۔ ــــ بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــــ السرجَ: زین کے لئے نمدہ بنانا۔ ــــ الفرسَ: گھوڑے پر نمدہ کسنا۔ ــــ الشیء بالشیء: چیز کو چیز سے چپکانا۔ ــــ الرجُلُ رأسَهُ: مرد کا دروازہ میں داخل ہوتے وقت اپنا سر جھکانا ــــ الخرقَ: پھٹن کو پیوند لگانا۔

ــــ بصرُ المُصَلِّي: نماز پڑھنے والے کی نگاہ کا سجدہ کی جگہ پر جمنا۔ تَلَبَّدَ الصوفُ و نحوه: اون وغیرہ کا نمدہ بننا۔ ــــ الطائرُ بالارض: پرندہ کا زمین پر بیٹھنا۔ ــــ الرجُلُ: دیکھ کر معلوم کرنا۔ ــــت الارضُ بالمطر: زمین کا بارش سے ٹھوس ہو جانا۔ اِلْتَبَدَ الورقُ و نحوه: پتوں وغیرہ کا آپس میں چمٹنا۔ ــــت الشجرةُ: درخت کا بہت پتوں والا ہونا۔ اللِبْد جمع لُبُود و اَلْباد: اونی چٹائی، زین کے نیچے کا عرق گیر۔ تہ بتہ جمائے ہوئے بال یا اون۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یجف لِبْدُه: فلاں کا عرق گیر خشک نہیں ہوتا یعنی وہ ہمیشہ سفر پر رہتا ہے۔ اللَبْد (مص): نمدہ کہا جاتا ہے: مالُهُ سَبَدٌ و لا لَبَدٌ: اس کے پاس تھوڑا بہت کچھ نہیں۔ اللَبِد: تہ بتہ جمے ہوئے بال وغیرہ۔ جو نہ سفر پر جاتا ہو نہ اپنے گھر سے نکلتا ہو۔ اللُبَد: جو نہ سفر پر جاتا ہو نہ گھر چھوڑتا ہو۔ کہا جاتا ہے: مالٌ لُبَدٌ: بہت مال۔ صار الناسُ علیه لُبَداً: لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ابو لُبَد (ح): شیر۔ اللِبدَة: کپڑے کا ٹکڑا جس سے قمیض کے سامنے کا پیوند لگایا جائے۔ تہ بتہ جمے ہوئے بال یا اون، ران کا اندرونی حصہ (ح) ٹڈی۔ ــــ جمع لِبَد و لُبَد و اَلْباد و لُبُود: شیر کی ایال، اللُبْدة جمع لِبَد و لُبَد و اَلْباد و لُبُود: شیر کی ایال، تہ بتہ جمے ہوئے بال یا اون۔...... اللابد (فا) جمع لُبَّد (ح): شیر، کہا جاتا ہے: مالٌ لابدٌ: بہت مال۔ اللَبَّاد: نمدہ گر۔ اللُبَّاد: اون کی ٹوپی یا نمدے کی قبا۔ اللُبَّدَی: مجتمع لوگ، لوگوں کی بھیڑ۔ (ح) پرندہ جو زمین پر بیٹھا رہے اور بغیر اڑائے نہ اُڑے۔ اللَبُود (ح) جُمجُمَک۔ اللَبِید: توبرا، بورا، چھوٹا تھیلا۔ ــــ و اللُبَادَی و اللُبَّادَی (ح): پرندہ، جو زمین پر بیٹھا رہے اور اڑائے نہ اڑے، بٹیر، لوا۔ المُلْبِد (فا): زمین سے چمٹنے والا، فقیر۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُلْبِدٌ: فلاں شخص بہت فقیر ہے۔ (ح): شیر۔ المُلْبَد و المُلَبَّد: پیوند کیا ہوا۔ المَلْبُود: پیوند شدہ۔ تیسٌ مَلْبُود: بھرے ہوئے جسم کا نر چکارا۔

○ لَبَدَ ـلُبُوداً ب: سے چمٹنا، چپکنا، سے وابستہ رہنا، سے بندھنا، پر چڑھنا، میں رہنا، میں اقامت کرنا، میں ٹھہرنا۔ لَبَّدَ ہ: (اون) کا نمدہ بنانا، کو چٹائی کی طرح بنانا، کو نمدہ کا استر لگانا، (اولوں کا گھاس کو) پیس ڈالنا، گرا دینا، (کپڑے کو) کلف دینا۔ اَلْبَدَ ب: سے مضبوطی کے ساتھ چمٹنا، سے وابستہ رہنا، سے چمٹا رہنا۔ تَلَبَّدَ: مضبوطی کے ساتھ چمٹنا، وابستہ رہنا، چمٹا رہنا، متحد رہنا، نمدہ بن جانا، چٹائی کی طرح بن جانا، اُلجھنا، پھنسنا، مل کر بنا جانا، گندھنا، ملنا، جڑنا، باہم وابستہ ہونا، بھنچنا، گھٹا چھانا، بادلوں کا گھر آنا ــــ بالغیوم: (آسمان پر) بادل چھانا، بادلوں سے بھر جانا، (چہرے کا) تاریک ہونا۔ لِبْد جمع لُبُود و اَلْباد: نمدہ۔ لُبُودٌ من الغمائم: بادلوں کے گھنے، ڈھیر، طبقے۔ لَبَد: اون۔ لَبِد: بندھا ہوا، جڑا ہوا، چپکا ہوا، مربوط، ٹھوس، پختہ، مضبوط۔ لُبَد: لقمان کی ساتویں گدھ (کرگس) (جس کی موت نے لقمان کی زندگی ختم کردی)۔ لمبی عمر سے استعارہ ہے۔ لِبْدَة جمع لِبَد: (شیر کی) ایال، نمدہ کی تنگ ٹوپی۔ نمدے کا ہیٹ، نمدے کی ٹوپی۔ لُبَادَة: چٹائی کی طرح بنائی ہوئی اور دبائی ہوئی اون یا بال، نمدہ۔ لَبَّاد: نمدہ بنانے والا، نمدہ لُبَّادَہ جمع لُبَّادات: گھوڑے یا زین کا کمبل (جمع لبابید) نمدے کی ٹوپی۔ مُلَبَّد بالغیوم: ابر آلود (آسمان)۔ مُتَلَبِّد بالغیوم: ابر آلود آسمان۔

لبز: لَبَزَ ـلَبْزاً ہُ: کو سخت مارنا۔ ــــ الشیءَ: کو بہت کھانا، کو توڑ دینا۔ ــــ فُلاناً: کو برا لقب دینا، کی پیٹھ پر ہاتھ سے مارنا۔

لبس: ۱۔ لَبَسَ ـلَبْساً علیه الامرَ: پر کسی امر کو خلط ملط کرنا، مشتبہ بنانا۔ ــــ ـلَبْساً ہُ: کو اس کے معاملہ میں الجھا دینا، شبہ میں ڈالنا، آپ کہتے ہیں: لَبَسَنی: اس نے مجھے اپنا معاملہ میں شبہ میں ڈال دیا۔ لَبِسَ ـ لُبْساً الثوبَ: لباس پہننا۔ ــــ فلاناً: کی صحبت سے مدت تک متمتع ہونا ــــ فُلاناً علی مافیه: کو قبول کرنا، برداشت کرنا۔ کہا جاتا ہے: لَبِستُ علی ذلك اُذُنَيَّ: اس پر میں بہرا بنا رہا، کوئی بات نہ کی۔ لَبِستُ لِفُلانٍ اُذُنَيَّ: میں اس کے لئے انجان بنا رہا۔ لَبَّس علیه الامرَ: پر معاملہ کو خلط ملط کرنا۔ ــــ الشیءَ: کو چھپانا، الجھا دینا۔ لَابَسَ ہُ: سے میل جول کر کے اندرونی حالت معلوم کرنا۔ ــــ الامرَ: کو استقلال سے کرنا۔ اَلْبَسَ ہُ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا، ڈھکنا کپڑا پہنانا۔ ــــ ہُ الثوبَ: کو لباس پہنانا۔ تَلَبَّسَ عَلَيَّ الامرُ: مجھ پر معاملہ خلط ملط ہو گیا، مشتبہ ہو گیا اور مشکل ہو گیا۔ ــــ بالامرِ و بالثوب: کام میں لگنا، کپڑا پہننا۔ کہا جاتا ہے: تَلَبَّسَ حُبُّهُ بدمی: اس کی محبت میرے خون میں شامل ہو گئی۔ ــــ الطعامُ بالید: کھانے کا ہاتھ سے چپک جانا۔ ــــ بِيَ الامرُ: کام کا (مجھ) سے متعلق ہونا، تعلق ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَلَبَّسَ لِباساً حَسَناً: اس نے خوبصورت لباس پہنا۔ اِلْتَبَسَ بعمل كذا: سے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خلط ملط ہونا۔..... علَیَّ الامرُ: معاملہ کا (مجھ) پر گڈ مڈ ہونا، مشکوک ہونا، مشکل ہونا۔ اللُّبس: شبہہ، دشواری، ابہام، دھندلا پن، ایک قسم کا کپڑا۔ اللَّبس: شبہ، دشواری، ابہام، تاریکی کا ملنا۔ اللِّبْس جمع لُبُوس: پہننے کی چیز، کھال اور گوشت کے درمیان کی باریک جھلی۔ لِبسُ الھودج و نحوہ: ڈولی کا پردہ۔ اللُّبْسَة والالتباس و اللَّبُوسة واللُّبُوسة: شبہ، دشواری، ابہام، دھندلا پن۔ اللِّبْسة: پہننے کا ایک طریقہ۔ ایک قسم کا کپڑا۔ اللِّباس: اختلاط، اجتماع، شوہر، بیوی۔ جمع لُبُس و اَلْبِسَة: لباس۔ لباسُ الزھرِ: کلی کا غلاف۔ لِباسُ التَقْویٰ: حیاء، شرم۔ اللَّبَّاس: بہت خلط ملط کرنے والا، بہت لباس پہننے والا۔ اللَبُوس: لباس، زرہ، بہت کپڑے پہننے والا۔ اللَبِیْس: مثل، مانند، نظیر، کپڑا۔ قمیصٌ لَبِیْس: بوسیدہ کپڑا۔ التَلْبِیس (مص): حقیقت چھپا کر، خلاف حقیقت کا اظہار۔ المِلْبَس: رات۔ ......والمَلْبَس جمع مَلَابِس: لباس۔ المُلَبَّس (مفع): شکر چڑھا بادام وغیرہ۔

۲۔ اِلْتَبَسَ تْ بہ الخیلُ: گھوڑوں کا کسی کے پاس جا پہنچنا۔

○ لَبِسَ ۔ لُبْساً ہ: (لباس) پہننا۔ لَبَّس ہ ہ: کو (کچھ) پہنانا۔ــــــ ہ ب: کو سے ڈھکنا، کو کا لیپ کرنا، کو سے آراستہ کرنا، پر کا خول چڑھانا، کو سے مرصع کرنا۔ــــ ہ: پر بیماری وغیرہ کی زردی چھا جانا، پر کپکپی طاری ہونا۔ــــ ہ علی: کے لئے کو مبہم غیر واضح بنانا، الجھا ہوا یا پیچیدہ بنانا۔ــــ علی: کو دھوکا دینا، الو بنانا۔ لَابَسَ ہُ: سے قریبی تعلقات ہونا، سے ہم پیالہ و ہم نوالہ ہونا۔ــــ ہ/ہ: سے قریبی رابطہ رکھنا۔ــــ ہ: کو (ماحول، معاشرتی ماحول، حالات کا) گھیر لینا۔ اَلْبَس ہ ہ: کو (کوئی کپڑا وغیرہ) پہنانا۔ــــ ہ: کو لیپ کرنا، کو آراستہ کرنا، کو ڈھکنا۔ تَلَبَّس ب: (کوئی کپڑا) وغیرہ پہننا، سے ڈھکا ہوا ہونا، میں ملفوف ہونا یا میں ملوث ہونا، میں کھنچ کر چلے جانا، کو خواہ مخواہ چھیڑنا، ــــ علی: کیلئے مبہم، ناقابل فہم، مشتبہ ہونا، غیر واضح ہونا۔ اِلْتَبَسَ علی: کے لئے مبہم ہونا، مشتبہ ہونا، غیر واضح ہونا۔ــــ ب: سے خلط ملط ہونا۔ــــ ہ ب: کو غلطی سے کوئی سمجھ بیٹھنا۔ لُبْس و لَبْس و لُبْسة: اُلجھن، گڈمڈ، گڑبڑ، ابتری، پریشانی، گھبراہٹ، الجھاؤ، پیچیدگی، دھندلا پن، تاریکی، تذبذب، غیر یقینی حالت، عسیر الفہمی، ابہام۔ کان فی لبس من امرہ: کے بارے میں متذبذب ہونا، کے متعلق شکوک وشبہات رکھنا۔ لِبس جمع لُبُوس: کپڑے، لباس، پوشاک، جوڑا۔ لِبْسة: پہننے کا انداز، وضع قطع۔ لباس جمع لِباسات و اَلْبِسَة: کپڑا، لباس، پوشاک، زیر جامہ۔ لباس الرأس: بجلی ٹوپی۔ لِباسُ التَقْوَی: شائستگی، حیا، پاکبازی، شرافت، شرم۔ لباس رسمی و لباس عسکری: وردی۔ لباس السَھْرة: شام کا لباس۔ لباس وطنی: قومی لباس۔ البسة جَاھِزَة: ریڈی میڈ کپڑے۔ لَبِیس: پہنا ہوا، پہنے ہوئے کپڑے، مستعمل کپڑے (second hand clothes) دریائے نیل کی ایک قسم کی مچھلی۔ لَبُوس: کپڑا، بتی، شیافہ (suppository)۔ لَبُوس رسمی: وردی۔ مَلْبَس جمع مَلَابِس: لباس، سوٹ، جمع کپڑے، لباس پوشاک۔ ملبسُ الوقایة: حفاظتی لباس۔ ملابسُ التَشْرِیفة: دعوتی لباس۔ ملابس داخلیة و خارجیه: زیر جامہ اور اوپر پہننے کے کپڑے۔ ملابس رسمیه: وردی، ملازموں کی وردی۔ ملابس المیدان: فیلڈ یونیفارم۔ مَحَلُّ الملابس: ریڈی میڈ کپڑوں کی دوکان۔ تَلْبِیس: لباس پہنانا، منڈھنا، کوٹ لگانا، خول چڑھانا، مسالہ چڑھانا، تہ چڑھانا، صندوق میں رکھنا، صندوق میں بند کرنا، غلاف چڑھانا، میان میں رکھنا، ڈھانپنا، دیوار پر مسالہ چڑھانا یا منہ چڑھانا، دیوار پر سفیدی پھیرنا، دیوار کی سفیدی، پلاستر، گھوڑے پر پالان یا زین ڈالنا، پچی کاری، جڑاؤ کاری، فریب، دھوکا، چال، حیلہ سازی، عیاری، حیلہ گری، دغا، دغا بازی۔ تَلْبِیْسَة: بتی، شافہ (suppsitory) مُلَابسة: راہ و رسم، میل جول، گہری دوستی، بے تکلفی، قریبی تعلقات۔ مُلَابَسَات: تعلقات، ناطے، روابط، رشتے، ساتھ کی چیزیں، ساتھ ساتھ ہونے والے عجیب وغریب واقعات، گرد و پیش کے حالات، گرد و پیش، ماحول۔ قضایا التلبس: ایسے کیس (حالات) جن میں مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔(cases of flagrant delicto)۔ التباس: الجھن، پریشانی، گھبراہٹ، الجھاؤ، پیچیدگی، دھندلا پن، ابہام، شک وشبہ، شک۔ دفعُ الالتباس: تصحیح، اصلاح، درستی، تلافی، توضیح، وضاحت۔ اَحاط بہ الالتباسُ: مکمل طور پر مبہم اور غیر واضح ہونا، تاریکی میں لپٹا ہوا، دھندلا ہونا۔ مَلْبُوس: پہنا ہوا، مستعمل کپڑے، جس پر کسی کا سایہ ہوا، ہیجانی کیفیت یا مذہبی وجد میں۔ مَلْبُوسات: لباس، پوشاک، کپڑے۔

○ مُلَبَّس: پیچیدہ، الجھا ہوا دھندلا سا، مشکوک۔ مشتبہ، مرصع، پچی کاری کا، جڑاؤ کام والا، جڑا ہوا، کوٹ کیا ہوا، شکر چڑھا، قند کے قوام میں پکا ہوا، مربہ بنایا ہوا۔ مُتَلَبِّسًا بِالْجَرِیْمَة: رنگے ہاتھوں (پکڑا ہوا) جرم کرتے ہوئے۔ مُلتبس: الجھا ہوا، پیچیدہ، دقیق، مشکل، دشوار، دھندلا، مبہم غیر واضح، مشکوک، مشتبہ، غیر یقینی۔

لبش: لَبَّشَ: جانے یا سفر کیلئے اپنی چیزوں کو یا سامان کو کسی ترتیب کے بغیر اکٹھا کرنا (عوام کی زبان میں)۔

لبط: ا۔ لَبَطَ ۔لَبْطًا بفلان الارضَ: کو بچھاڑنا، زمین پر پٹکنا۔ـــ لَبْطاً البعیرُ او البغلُ: اونٹ یا خچر کا زمین پر پاؤں مارنا، دوڑنے میں لاتیں پٹکانا (سریانی لفظ)۔ لُبِطَ بہ: گرایا جانا، بیماری وغرہ سے گر پڑنا، پچھاڑا جانا۔ عام لوگ کہتے ہیں: لَبط العجینُ و نحوہ: گندھا ہوا آٹا وغیرہ، نرم ہوگیا اور پھیل گیا اور اس سے نپٹنا مشکل ہوگیا۔ تَلَبَّطَ و الْتَبَطَ البعیرُ: اونٹ کا لات مارنا، دوڑنے میں لات پٹکنا ...... الرجلُ: زمین پر لوٹنا، مضطرب وحیران ہونا......فی الامر: میں کوشش کرنا، محنت کرنا، حیلہ کرنا۔ اللُبْطَة: لَبَطَ کا اسم مرة۔ اللَبَطة: الالتباط کا اسم۔ لنگڑے کی دوڑ۔ المَلْبُوط (مفع): رجُلٌ مَلْبُوطٌ بہ: متحیر۔

۲۔ لُبِطَ بہ: زکام زدہ ہونا۔ اللُبْطَة: زکام۔

۳۔ الاَلْبَاط واحد لَبَط: چمڑے، کھالیں۔

○ لَبَطَ ۔لَبْطًا: لبط بہ الارض: کو زمین پر گرانا، پچھاڑنا۔ـــــــ: (جانور کا) لاتیں مارنا۔ ادھر اُدھر سرپٹ دوڑنا۔

لبع: لَبَعَ: بسیار خور ہونا (عوام کی زبان میں)۔

لبق: ا۔ لَبَقَ ۔لَبْقًا الشیءَ: کو نرم کرنا۔ لَبِقَ ۔لَبَقًا و لَبُقَ ۔لَبَاقَةً: ماہر ہونا، ذہین ہونا، نرم اخلاق ہونا۔ـــ الثوبُ و نحوہُ بفلان: لباس وغیرہ کا کو زیب دینا۔ لَبَّقَ الشیءَ: کو نرم کرنا۔ـــــ لہُ الثوبَ و نحوہُ: کو لباس پہنا کر دیکھنا آیا وہ اسے زیب دیتا ہے۔ عوام کہتے ہیں: لَبَّقَ لہُ اسماً: کو سے ملقب کرنا، کو کا نام دینا۔ اللَبِق م لَبِقَة و اللبیق م لَبِیْقَة: نرم خو، نرم اخلاق والا، قابل، ذہین، شگفتہ، زندہ دل۔

○ لَبُقَ ۔لَبَاقَةً: چالاک ہونا، ماہر ہونا، شائستہ وخوش خلق ہونا، پاکیزہ، شائستہ اخلاق وعادات والا ہونا۔ لَبِقَ ۔ لَبَقًا: چالاک ہونا، ماہر ہونا، شائستہ ہونا، خوش خلق ہونا، پاکیزہ ہونا، شائستہ اخلاق وعادات والا ہونا۔ـــــ ب: (کپڑوں کا) پر سجنا، کو زیب دینا، کو فٹ آنا۔ لَبَّقَ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہ: کے مطابق ہونا، کرنا، کو ٹھیک ٹھاک کرنا، کو قرینہ سے لگانا۔ لَبَق: چالاکی، تیز طبعی، باریکی، لطافت، نکتہ سنجی، باریک بینی، مہارت، اپج، خوش تدبیری، موزونیت، شائستگی، سلیقہ، ادب آداب۔ لباقة بمعنی لَبَق: نیز، شائستہ اخلاق وعادات، دلکشی، خوش اسلوبی۔ لَبِق و لبیق: چالاک، باریک بین، دقیقہ سنج، شائستہ اخلاق وعادات والا، شستہ، مناسب، دل خوش کن۔

لبک: لَبَكَ ـُ لَبْكاً و لَبَّكَ الامرَ او الشیءَ: کو خلط ملط کرنا، ملا دینا۔ ـــ الثرید: ثرید کو کھانے کے لئے اکٹھا کرنا (ثرید: شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی)۔ ـــ القومُ بین الشاء: لوگوں کا بکریوں کو خلط ملط کر دینا۔ عوام کہتے ہیں: لَبَّكَهُ به: اس نے اسے اپنے معاملہ کے بارے میں الجھن میں ڈال دیا۔ لَبِكَ ـَ لَبْكاً و تَلَبَّكَ و التَبَكَ الامرُ: مختلط و مشتبہ ہونا۔ اَلْبَكَ: فحش کلامی کرنا، گفتگو میں غلطی کرنا۔ اللَّبْكُ واللَّبَكَة: مخلوط چیز۔ کہا جاتا ہے: وقع فی لبكة: وہ الجھن میں پڑ گیا۔ امرٌ لَبِك و لَبِیْكٌ: خلط ملط اور مشتبہ معاملہ۔ اللَّبَكَةُ: لقمہ یا ثرید کا ایک حصہ۔ اللُّبَاكَة و اللَّبِیكَة: جماعت، گروہ۔ کہا جاتا ہے: وقع فی لبیكة: وہ الجھن میں پڑ گیا۔

○ لَبَكَ ـِ لَبْكاً و لَبَّكَ ہ: کو ملانا، خلط ملط کرنا، کی آمیزش کرنا۔ ہ: کو درہم برہم کرنا، الجھانا، گڈمڈ کرنا، خلط ملط کر دینا، مکدر کرنا، خراب کرنا، تہ و بالا کرنا۔ لَبِكَ ـَ و تَلَبَّكَ و التَبَكَ: الجھن میں پڑنا، درہم برہم ہونا، الٹ پلٹ ہو جانا، بے ترتیب ہو جانا، تہ و بالا ہو جانا، غیر منظم ہو جانا۔

لبن: ١۔ لَبَنَ ـُ لَبْناً فلاناً بالعصا: کو زور سے لاٹھی مارنا۔

٢۔ لَبَنَ ـِ لَبْناً الرجلَ: کو دودھ پلانا۔ لَبِنَ ـَ لَبَناً ت الشاةُ: بکری کا دودھ زیادہ ہونا۔ اَلْبَنَ القومُ: قوم کا بہت دودھ والا ہونا صفت لابنون و مُلبِنون۔ ـــ الرجلُ: تلبینہ بنانا ـــ ت الشاةُ: بکری کے تھنوں میں دودھ اترنا۔ اِلْتَبَنَ: دودھ چوسنا۔ اِسْتَلْبَنَ: دودھ طلب کرنا۔ اللابن (فا) م لابنة جمع لابنات و لَوَابن: دودھ والا، بہت دودھ والا، دودھ پلانے والا۔ اللَّوَابن: تھن۔ اللَّبَن (مص) جمع البان: دودھ۔ لبنة: کچھ دودھ۔ لبنُ الشجرة: درخت کا دودھ (درخت کا پانی)۔ لبنُ الطیر (ن) (الصاصل): ایک پودا، پھول جس کے سفید اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ یوروپ، ایشیا کے معتدل علاقوں، متوسط علاقوں اور جنوبی افریقہ میں اس کی بہتات ہے۔ اس کی بعض اقسام آرائش کیلئے اگائی جاتی ہیں۔ اللَّبِن: دودھ کا بہت دلدادہ۔ دودھ پینے والا اللَّبِنَة و اللَّبْنَة: دودھ والی۔ اللَّبْنِیَّة (ط): دودھ، چاول اور گوشت سے تیار کیا جانے والا کھانا۔ اللُّبَان (ن) صنوبر (ن): کندر۔ اللَّبَان: سینہ یا دونوں پستانوں کے درمیان کا حصہ۔ اس کا اکثر استعمال کھروں والے جانور کے سینہ کے لئے ہوتا ہے (جیسے گھوڑی کا سینہ)۔ اللِّبَان: دودھ۔ کہا جاتا ہے: هو اخوه بلبان امه: وہ اس کا دودھ شریک بھائی ہے۔ بِلَبَنِ اُمِّهِ: نہیں کہا جاتا۔ اللَّبَّان عند العامة: دودھ فروش۔ اللَّبُون: دودھ کا بہت دلدادہ۔ ـــ و اللَّبُونة جمع لِبَان و لِبْن و لُبْن ولَبَائن: دودھ والی۔ کہا جاتا ہے: کم لُبْنُ غنمك؟: تمہاری بکریوں میں کتنی دودھ والی ہیں؟۔ اللَّبِیْن م لَبِیْنَة: دودھ سے پرورش پایا ہوا۔ اللُّبْنَى (ن): ایک درخت جس سے شہد کی طرح دودھ نکلتا ہے۔ عسلُ اللُّبْنَى: اس درخت سے نکلنے والی گوند۔ التَّلْبِیْن والتَّلْبِیْنَة: بھوسی، دودھ یا شہد سے تیار کیا ہوا حریرة۔ المَلْبَن (ط): ایک قسم کی کھانے کی چیز جو نشاستہ، چینی اور گلاب کے پانی سے تیار کی جاتی ہے۔ المِلْبَن: دودھ صاف کرنے کی چھلنی، دودھ دوہنے کا برتن۔ المَلْبَنَة: چمچ، چمچہ۔ عشبٌ مَلْبَنَةٌ: ایک قسم کی گھاس جس سے جانور دودھ زیادہ دینے لگتے ہیں۔ المُلَبِّن عند العامة: اینٹیں بنانے والا۔ المَلْبُون: دودھ سے پرورش پانے والا۔ دودھ کے نشہ والا۔

٣۔ لَبَنَ ـِ لَبْناً الرجلُ: بہت کھانا۔

٤۔ لَبِنَ ـَ لَبَناً الرجلُ: تکیہ کی وجہ سے گردن میں درد ہونا۔ لَبِنُ القمیص: کرتے کی کلی۔ اللِّبْنَة: کرتے کی کلی۔

٥۔ لَبَّنَ: فیصلہ کرنے کے لئے مجلس منعقد کرنا۔ مجلسٌ لَبِنٌ: ضروری اور اہم کام کے متعلق فیصلہ کے لئے منعقد ہونے والی مجلس۔ اللُّبَانَة جمع لُبَان و لُبَانات: معاملہ، کام، فرائض، ذمہ داریاں۔ قضیتُ لُبانتی: میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔

٦۔ لَبَّنَ: اینٹیں بنانا ـــ الشیءَ: کو چوکور بنانا۔ اللَّبِن واحد لَبِنَة و اللِّبْن واللبن: کچی اینٹیں۔ اللَّبَّان: اینٹیں بنانے والا۔ المِلْبَن: اینٹ بنانے کا سانچہ۔ اینٹیں لیجانے کی ریڑھی۔

٧۔ تَلَبَّنَ الرجلُ: سست ہونا، دیر کرنا۔

○ لَبَّنَ: اینٹ بنانا۔ اِلْتَبَنَ: دودھ چوسنا، پستان یا تھن سے دودھ پینا۔ لَبِن و لَبِنَة: کچی اینٹیں۔ کچی اینٹ

لَبَن جمع اَلْبَان: دودھ، دہی۔ البان: دودھ کے کارخانے کی مصنوعات، دودھ کی مصنوعات جیسے مکھن، ملائی پنیر۔ لَبَنُ الخَضّ: چھاچھ، مکھن نکلی لسی۔ butter milk۔ شِرْشُ اللبَن: دودھ یا دہی کا پانی۔ ماء الجبن۔ مِیْزَانُ اللبن: شیر پیما، معیار اللبن، دودھ کے خالص ہونے کا امتحان کرنے والا آلہ۔ فَرْعُ الالبان: ڈیری ڈیپارٹمنٹ dairy department۔ لَبَنِی: دودھ کا۔ (صفت)، دودھیا، دودھ جیسا، دودھ کے متعلق۔ لَبَنِیَّة: دودھ سے تیار کیا ہوا کھانا a dish prepared of milk۔ لَبَان: پستان، چھاتیاں۔ لُبَان: لوبان frankinense۔ لُبَان جَاوِی: ملک جاوا کا لوبان۔ لُبَان ذَکَر: لوبان، مشرقی لوبان۔ لُبَان شامی: ایک قسم کی رائی یا گوند۔ لُبَان العَذْرَاء: میگنیشیا (magnesia)۔ لِبَان: دودھ چوسنا، دایہ گری کرنا۔ لَبَّان: اینٹ بنانے والا، دودھ والا۔ لُبَانَة جمع لُبَانات و لُبَان: آرزو، خواہش، تمنا، مقصد، غرض، منزل مقصود، اختتام، انجام، کام، اہم کام، کار عظیم۔ لِبَانَة: ڈیری، دودھ کی مصنوعات بیچنا یا بنانا۔ لَبِنَة و لَبُون و لَبُونة جمع لِبان لُبن و لُبُن و لَبَائِن: دودھ دینے والی، دودھیل میں۔ حَیَوانٌ لبونٌ: تھن والے یا دودھ پلانے والے جانور۔ لُبْنَی: گوند والا درخت۔ لُبنان: ایک ملک کا نام Lebanon۔ لُبنانی: لبنان کا جمع لُبْنَانِیُّون۔ مَلْبَن: نشاستہ، چینی، مصطگی اور پستہ سے تیار کردہ مٹھائی۔ مَلْبَنَة: ڈیری dairy۔

لبو: اَللَّبُوَّة و اللَّبُوَة (ح): شیرنی اسے لَبُؤَة و لَبَاءَة و لَبْأَة بھی کہا جاتا ہے۔ (اس کا ذکر مادہ لبأ میں بھی آ چکا ہے)۔

لبی: لَبِیَ یَلْبَی لَبْیًا من الطعام: بہت کھانا کھانا۔ لَبَّی تَلْبِیَةً الرجلَ: کو جواب دینا اور لَبَّیْكَ کہنا۔ کہا جاتا ہے: بینهم المُلَبَّیَة: ان میں ایسا اتفاق ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتے۔

○ لَبَّی ہ: (دعوت پکار) پر عمل کرنا، کی تعمیل کرنا۔ ہ: کا جواب دینا، پر، راضی ہونا، کو مان لینا، کے حسب ہدایت یا خواہش کام کرنا، حکم بجالانا، حکم کی تعمیل کرنا۔ لَبَّی نِدَاءَ ربِّه: پروردگار کے بلاوے پر دنیا کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ جانا۔ لَبَّیْك: میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، میں تمہاری اطاعت پر قائم ہوں۔ تَلْبِیَةً لِ: کی تعمیل میں، کے حسب خواہش یا حسب ہدایت۔ تلبیةً لدعوته: اس کی دعوت پر۔ لیبیریا: ایک ملک کا نام Liberia۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لتّ: ۱۔ لَتَّ ـلَتًّـا الشیءَ: کو باریک کرنا، پیسنا، باندھنا، جکڑنا۔ ــ السویقَ: ستو میں پانی یا گھی ملانا۔ ــ الماءُ الثیاب و غیرھا: پانی کا کپڑے وغیرہ تر کرنا، عوام لتّ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی بہت باتیں کرے جن سے کچھ فائدہ نہ ہو۔ لُـتَّ فـلانٌ بـفـلان: فلاں کا فلان سے چمٹ جانا۔ اللّاتّ: لَتَّ سے اسم فاعل۔...... اللاتُ: زمانہ جاہلیت میں ایک بت کا نام۔ اِل کا مؤنث ہے جو آشوریہ میں ایک دیوتا تھا۔ اس جہت سے اللات کا معنی ہوگا دیوی۔ الـلَتّ (مص): کلہاڑی، بڑا کلہاڑا۔ (فارسی لفظ): اللُتات: آمیزہ، درخت کی چھال جو باریک کی جائے۔ کہا جاتا ہے: ما ابـقـی منـی المرضُ الالـتـاتا: بیماری نے مجھ میں سوائے خشک جلد کچھ نہیں چھوڑا۔

۲۔ الَتَّ الطائرُ: پرندہ کا اپنا سر بازوؤں میں چھپالینا۔

۳۔ الـلَتلَتَة: جھوٹی قسم۔...... عـنـد العـامة: بےسود باتیں، ایسے کام کرنا جو غیر اہم ہوں۔ فـعـل لَتلَتَ: بڑہانکنا اس سے صفت لتـلات ہے یعنی بڑ ہانکنے والا مونث لَتلاته ہے۔

○ لـتَّ ـلتـا ہ: کو پیسنا، کچلنا، کوٹنا۔ ہ: آٹا وغیرہ میں پانی ملانا، خمیر ملا آٹا گوندھنا...... ہ ب: کو میں چکر دینا، گول پھرانا، لپیٹنا، پر کالیپ کرنا۔ لَتّ: بک بک کرنا، فضول باتیں کرنا، بکواس کرنا، ہرزہ سرائی کرنا، یاوہ گوئی کرنا۔ لـتَّ و عَـجَـنَ فی مسـألةٍ: کسی مشکل یا مسئلہ کو از سر نو اٹھانے سے نہ تھکنا، کسی مسئلہ پر آگے پیچھے بحث مباحثہ کرنا۔ لـتّ: بکواس، طفلانہ گفتگو۔ لتات: بچوں کی طرح گفتگو کرنے والا، بک بک کرنے والا، گپی، باتونی، باتونی مقرر، بکی مقرر۔

لتأ: لتأ ـلتـا فـلانـا فی صـدرہ: کو دھکا دینا۔ کہا جاتا ہے: لَتَأتْ بہ اُمُّہُ: اس کی ماں نے اسے جنا۔...... ہُ بحجر: کو پتھر مارنا...... إلیہ بعینہ: کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، گھورنا ــ الشیءَ: کو کم کرنا۔ اللَتیءُ: اپنی جگہ پر رہنے والا۔

لتب: لتبَ ـلتبًا و لُتوبًا بہ: سے چمٹنا، چپکنا...... فیہ: میں پکا رہنا، جمار ہنا، مستحکم ہونا...... فی منحر الـنـاقة: اونٹنی کے گلے میں بھالا مارنا...... و لَتَّبَ السرجَ علی الفرس: گھوڑے پر زین کسنا۔ کہا جاتا ہے: لَتَّبَ علیہ ثوبَہُ: اس نے لباس پہنا جیسے اسے اتارنے کا ارادہ نہ ہو۔ الْتَبَ علیہ الامرَ: پر کوئی بات یا کام واجب کرنا۔ تَلَاتَـبَ الـقـوم: لوگوں کا متحد رہنا۔ ـــــ القومُ بالرماح: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ اِلتَتَبَ الثوبَ: لباس یا کپڑے پہننا۔ الـلاتـب (فـا): چپکنے والا، جما رہنے والا۔ الـمِلتَب: گھر میں پڑا رہنے والا۔ الـمَلاتِب: پرانے کپڑے۔

لتح: لَتَحَ ـلَتحاً ہُ: کو کنکری مار کر منہ یا جسم کو زخمی کر دینا۔ ــــ ہُ ببصرہ: پر نگاہ ڈالنا۔ ــــ فلانا: سے سب کچھ لے لینا۔ لَتِحَ ـلَتَحـا: بھوکا ہونا صفت لَتحـان م لَتحَی۔ رجُلٌ لَتِحٌ و لاتِحٌ و لَتَاحٌ و لُتَحَةٌ جمع لِتـاح: عقل مند، چالاک آدمی۔ کہا جاتا ہے: ھـو الَتَحُ شِعراً منہ: وہ فصیح و بلیغ اظہار میں اس سے بہتر شاعر ہے۔

لتخ: لَتَخَ ـلَتخاً ہُ: کو آلودہ کرنا۔ ــــ الشیءَ: کو پھاڑنا۔ تَلَتَّخَ بالشیء: سے آلودہ ہونا۔

لتد: لَتَدَ ـلَتدًا فلانا بیدہِ: کو مکا مارنا۔

لتر: اللِتر و اللِیتر: لیٹر (litre یا Liter) (سیال اشیاء ناپنے کا آلہ) جمع لِترات۔

لتز: لَتَزَ ـلَتزاً ہُ: کو مکا مار کر ہٹانا۔

لتم: لَتَمَ ـلَتمًا ہُ: کو مارنا، کے نتھنے پر نیزہ مارنا۔ ــــ السھمَ: تیر پھینکنا ــــ ہُ بسھمٍ: کو تیر مارنا۔ ــــ فلانٌ بشفرتہ فی لَبَّةِ بَعِیرہِ: اونٹ کے بالائی سینہ پر تلوار کی نوک مارنا...... ـتِ الحجارةُ رِجل الماشی: پتھر کا پیدل چلنے والے کے پاؤں کو زخمی کرنا۔ اللَتم: زخم۔

○ لِتمُوس: لٹمس (litmus)۔ لِتُوانیا: لتھوانیا Lithuania۔

لتن: اللاتِینیّ جمع لاتینیون و لاتین م لاتِینِیَّة جمع لاتینیات: لا تینوم (اٹلی کا ایک علاقہ) کے متعلق، لاتینوم کا۔ لاتینی۔ کہا جاتا ہے: شـعْـبٌ لاتِینی: لاتینی عوام۔ لغة لاتینیة: لاتینی زبان۔

لتی: الَّتی والَّتِ والَّتْ جمع اللّاتِی واللاتِ والـوَاتِی و الـلَوَاتِ والـلَوَا (تاء کے حذف کیساتھ) والـلاوی و الـلاءِ واللاء ات۔ تثنیہ میں: اللَتَانِ و اللَتَانّ و اللتا (نون کے بغیر) حالت رفع میں اور اللَتَیْ نصب اور جر کی حالت میں: الذی کا مؤنث (جو) اللَتَیَّا و اللُتَیَّا: التی کی تصغیر۔ تثنیہ میں: اللَتَیَّان و اللُتَیَّان۔ جمع کی صورت میں: اللَتَیَّات و اللُتَیَّات: کہا جاتا ہے: وقع فی اللَتَیَّا و التی: وہ مختلف بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا اور کہا جاتا ہے: بعد اللَتَیَّا والتی صار کذا: بہت جھگڑے فساد کے بعد ایسا ہوا۔

لثّ: لَثَّ ـلَثًّا و الَثَّ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــ علیہ: پر اصرار کرنا ــ المطرُ: کئی دن تک بارش برستا رہنا۔ لَثَّ الشجرُ: درخت کا ترو تازہ ہونا، رختوں پر اوس پڑنا۔ اللَثّ: اوس شبنم۔

۲۔ لَثلَثَ المطرُ: بارش کا کئی دن برستے رہنا ــــ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــــ علی فلانٍ: پر اصرار کرنا۔ ــــ الرجُلُ: کمزور ہونا۔ ــــ البعیرَ: اونٹ کو تھکانا۔ ــــ ہُ فی التراب: کو مٹی میں لٹانا ــــ ہُ عن کذا: کو سے منع کرنا، روکنا۔ ــــ کلامَہُ: بات صاف نہ کہنا۔ ــ فی الامر: میں تردد کرنا، دیر لگانا۔ کہا جاتا ہے: لَثلِثوا بنا: ہمیں تھوڑا آرام دو۔ تَلَثلَثَ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا ــ فی الأمر: کسی بات یا کام میں تردد کرنا، دیر لگانا۔ ــــ فی التراب: مٹی میں لوٹنا۔ ــــ الغیمُ والسحابُ: ابر و بادل کا آنا جانا۔ اللَثلَث و اللَثلاث و اللَثلاثة و المُلَثلَث: ہر معاملہ میں دیر کرنے والا، جب کبھی تمہیں گمان ہو کہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا تو کاہلی کر جائے۔

لثأ: لثأ ـلثأ الکلبُ: کتے کا منہ ڈالنا یا چپڑ چپڑ کر کے پانی پینا۔ اللثأ: درخت سے بہنے والی چیز۔

لثد: لَثَدَ ـلَثدًا المتاعَ: سامان کو ترتیب سے رکھنا، اوپر تلے جمانا۔ الـلُثدَة: ٹھہرنے والی، کوچ نہ کرنے والی جماعت۔

لثط: لَثَطَ ـلَثطًا فلانًا: کو ہلکا سا مارنا ــــ ہُ: کو ہلکے سے پھینکنا۔

لثع: اللَثعَة: دانتوں کی جڑوں سے ہونٹ کا ملا ہوا حصہ۔ الألثَعُ م لَثعاء جمع لُثع: ہکلا۔

لثغ: لَثِغَ ـلَثغًا و تلاثغ: ہکلا ہونا صفت الَثَغ م لَثغاء جمع لُثغ۔ اللُثغَة: ہکلا پن۔ اللّثغة (ع ۱): منہ۔

○ لَثِغ ـلَثَغا: لکنت کرنا، تتلا کر بولنا۔ لَثِغَ بالسین: سین کے لفظ میں لکنت کرنا۔ لُثغة: ناقص تلفظ، لکنت، تتلا پن، الثغ م لثغاء جمع لُثغ: توتلا، لکنت کرنے والا۔

لثق: لَثِقَ ـلَثَقًا الیومُ: دن کا ساکن ہوا والا اور نمناک ہونا۔ ــــ المسافرُ: کیچڑ میں پڑنا۔ ــــ ـتْ ثیابُہُ: کپڑوں کا تر ہونا۔ ــــ الطائرُ: پرندے کے پروں کا تر ہونا صفت لَثِق۔ لَثَّقَ الشیءَ: کو خراب کرنا۔ الثَقَ الشیءَ: کو تر کرنا۔ تَلَثَّقَ و التَثَقَ: تر ہونا۔ اللَثَق: تری، نمی، کیچڑ۔ کہا جاتا ہے: مشینا فی لَثَقٍ: ہم کیچڑ میں چلے۔ الـلَثِق: چکنے والی مٹی وغیرہ۔ یوم لَثِق: ساکن ہوا والا اور نمناک دن۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لثم: اللَّثمَ ـ و لَثِمَ ـلَثماً الفمَ او الوجهَ: منہ یا چہرے کا بوسہ لینا۔ لَاثَمَہٗ: کا بوسہ لینا۔ تلاثَم: ایک دوسرے کا بوسہ لینا۔ اللاثِم جمع لُثَّم (فا) اللَّثمۃ: لثم کا اسم مرۃ، بوسہ۔

۲۔لَثَمَ ـلَثماً انفہ: کے ناک پر مکا مارنا۔۔۔۔تِ الحجارۃُ خفَّ البعیرِ: پتھر کا اونٹ کے پاؤں کو زخمی کرنا، خون آلود کرنا۔۔۔ البعیرُ الحجارۃَ بخفِّہِ: اونٹ کا پتھر کو ٹھوکر سے توڑ دینا۔۔۔ و لَثِمَ ـلَثماً و تَلَثَّمَ و التَثَمَ الرجلُ: منہ یا ناک پر کپڑا لپیٹنا۔ اللِّثَم: ناک اور اس کا اردگرد۔ اللِّثمۃ: گلوبند یا گلوپوش پہننے کا انداز۔ اللِّثام جمع لُثُم: ناک اور اس کے اردگرد لپیٹا جانے والا کپڑا یا نقاب۔

○ لثن ـلثناً ہ: کا بوسہ لینا؛ پر ضرب لگانا، کو زخمی کرنا۔ لثن ہ (چہرے) پر نقاب ڈالنا۔۔۔ ہ: کو ڈھکنا۔ تلثن و التثن: نقاب پہننا، اپنے آپ کو چھپانا۔ لُثْنۃ: بوسہ، لِثام: نقاب، شال، چادر۔ مُلَثَّم و مُتَلَثِّم: نقاب پوش۔

لثی: لَثِیَ یلثَی لثًی: تھوڑا سا پانی پینا۔۔۔ القِدرَ: ہانڈی کو خوب چاٹنا۔۔۔ شجرُ السَّمُرِ: ببول کے درخت کا نمناک ہونا، گوند بہانا۔۔۔۔ تِ الیدُ من طینٍ و نحوہ: ہاتھ کا مٹی وغیرہ سے لتھڑنا۔ دودھ کی چکناہٹ سے چکنا ہونا۔۔۔ الثوبُ: کپڑے کا پسینہ سے شرابور ہونا اور میلا ہوجانا۔۔۔ ألثی شجرُ السَّمُرِ: ببول کے درخت کا نمناک ہونا، گوند بہانا۔۔۔ تِ الشجرۃ ماحولھا: درخت کا اردگرد کو تر کرنا۔ تَلَثَّی: گوند نکالنا۔۔۔ الشجرُ: درخت سے گوند بہنا۔ اِلتثی: گوند نکالنا۔ اللَّثی: گوند، دودھ کی چکناہٹ، تری، نمی۔ لَثِی الثوب: کپڑے کا میل۔ اللِّثی: تر، گیلا، نم۔ ثوبٌ لثٍ: پسینہ میں بھیگا ہوا یا میلا کپڑا۔ اللِّثۃ جمع لِثًی و لِثاتٌ و لُثِیٌّ: مسوڑھا، عوام اسے نیرۃ الأسنان کہتے ہیں: اللثاۃ: حلق کا کوا (ن): ایک درخت کا نام۔ اللِّثَیُّ: گوند کھانے کا شائق۔ الحروف اللِّثویۃ: ث، ذ، ظ۔

لجّ: اللَّجَّ ـلَجَجاً و لَجَاجاً و لَجَاجۃً: ضد سے جھگڑنا، دشمنی میں ثابت قدم رہنا۔۔۔ فی الامر: کام میں لگا رہنا۔۔۔ بہ الھمُّ و نحوہٗ: کو غم لگنا۔ ۔۔۔ علی فلان فی المسألۃِ: سے مسئلہ میں اصرار کرنا اور اسکو جلد نمٹانے کا مطالبہ کرنا۔ لَجَّجَ القومُ: لوگوں کا گہرے پانی میں داخل ہونا۔۔۔ تِ السفینۃُ: جہاز کا بڑے سمندر میں داخل ہونا۔ لاجَّ خصمَہٗ: فریق مخالف سے دشمنی میں ثابت قدم رہنا۔ الَجَّ القومُ: لوگوں کا گہرے پانی میں داخل ہونا۔۔۔ ت الابلُ: اونٹوں کا آوازیں نکالنا اور بڑبڑانا۔ تَلَجَّجَ متاعَ فلان: کسی کے سامان پر دعوی کرنا۔ اِلتَجَّ البحرُ: سمندر کا ہیجان اور طوفان میں آنا، متلاطم ہونا۔۔۔ تِ الارضُ: زمین کا کثیر اور لمبی نباتات والی ہونا۔۔۔ ت الارضُ بالسراب: زمین میں سراب کا گہرے سمندر جیسا ہونا۔۔۔ الامرُ او الموجُ: معاملہ یا لہر کا بڑا اور گڈمڈ ہونا۔۔۔ الظلامُ: اندھیرے کا گھٹاٹوپ ہونا۔۔۔ ت الاصواتُ: آوازوں کا مخلوط ہونا۔ اِستَلجَّ متاعَ فلان: فلاں کے مال و متاع پر دعوئی کرنا۔۔۔ بیمینہ: یہ گمان کرکے کہ وہ سچا ہے قسم کا کفارہ ادا نہ کرنا اور اصرار کرنا۔ اللاجّ: بڑا جھگڑالو۔ اللُّجّ: پانی کا بڑا حصہ، بڑی جماعت، وادی کا کنارہ، تلوار۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ أدھمُ لُجّ: بہت سیاہ گھوڑا۔ اللُّجَّۃ جمع لُجَجٌ و لُجّ و لِجاج: پانی کا بڑا حصہ، بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لُجَّۃٌ واسِعَۃٌ: فلاں شخص وسعت میں سمندر جیسا ہے۔ اللَّجَّۃ: لجّ کا اسم مرۃ: شور و غل، آوازوں کی کثرت، کہا جاتا ہے بحرٌ لُجاجٌ: بہت وسیع سمندر۔ فلانٌ فی فؤادہ لَجاجۃ: فلاں کا دل بھوک سے دھڑک رہا ہے۔ اللَجوج واللَجوجۃ و اللُّجَجۃ و المِلْجاج: بڑا جھگڑالو۔ اللُّجِّیُّ: لُجّ سے منسوب بحرٌ لُجِّیٌّ: طوفانی اور بے پایاں سمندر۔ المُلتَجَّۃ: بہت سرسبز زمین، بہت سیاہ آنکھ۔

۲۔اللُّجّ: پہاڑ میں سخت جگہ۔ اللُّجَّۃ جمع لُجّ و لُجَجٌ و لِجاجٌ: چاندی۔

۳۔لَجلَجَ لَجلَجَۃً: ہکلانا۔۔۔ فی صدرہ شیءٌ: کوئی چیز کھٹکنا۔۔۔ اللقمۃَ فی فیہ: لقمہ کو منہ میں بغیر چبائے گھمانا۔ تَلَجلَجَ: ہکلانا۔۔۔ فی صدرہ شیءٌ: کھٹکنا۔۔۔ بالشیء: کو لینے میں جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے: تلجلج دارہٗ منہ: کسی سے اس کا گھر لینا۔ اللجلاج: ہکلا، توتلا۔

○ لجّ ـلَجَجاً و لَجاجاً و لجاجۃ: ضدی ہونا، سرکش ہونا، بے رحم اور بے درد ہونا، منہ زور ہونا۔۔۔ فی: میں ثابت قدم ہونا، پر اصرار کرنا، کو شروع کرنا، کو کرتے رہنا۔۔۔ علی: کے پیچھے پڑ جانا، کو دق کرنا، تنگ کرنا، کا ناک میں دم کرنا، کو تکلیف دینا۔۔۔ ب: پر بوجھ ڈالنا، کو پچھاڑنا یا زیر کرنا، کو کمزور کرنا، تھکا دینا، کو سخت نقصان یا صدمہ پہنچانا (بھوک کا) کو سخت ۔۔۔ کرنا، ستانا، پریشان کرنا، ضد سے کے ساتھ بحث مباحثہ یا جھگڑا کرنا۔ اِلتَجَّ: پرشور ہونا، بہت اونچا ہونا، ہنگامہ خیز ہونا، گرجنا، دھاڑنا، بہت زوروں کا ہونا۔ لُجّ و لُجّۃ جمع لُجَج و لِجاج: سمندر کی گہرائی، جھیل، اتھاہ، بے پایاں گہرائی، زمین میں گہرا خوفناک شگاف۔ لُجِّیّ: اتھاہ، بے پایاں، ہولناک گہرائی والا (سمندر)۔ لَجَّۃ: شور و غوغا، چیخ پکار، آواز، غل غپاڑہ۔ لَجاجۃ: جھگڑالو پن، ضد، ہٹ دھرمی، سرکشی، اصرار، ہٹ، استقلال ثابت قدمی۔ لَجوج و لاجّ: ضدی، سرکش، اڑیل، سنگدل، بے رحم، بضد، مصر، تکلیف دہ، سر ہوجانے والا، چم چچڑ، زبردستی دخل دینے والا، دخل در معقولات کرنے والا۔

لجا: اللَجَأ ـلَجأً و لُجوءًا و لجِیءَ ـلَجَأً والتجأ إلی الحصن وغیرہ: قلعہ وغیرہ میں پناہ لینا۔ لَجَّأَ تَلجِئَۃً فلاناً: کو مجبور کر دینا۔ ألجأ فلاناً: کو مجبور کر دینا۔۔۔ ہٗ: کو بچانا، کی حفاظت کرنا۔۔۔ امرہٗ إلی اللّٰہ: اپنے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا۔ تَلَجَّأَ إلیہ: کا سہارا لینا۔۔۔ من القوم: اپنے لوگوں سے جدا ہو کر دوسروں کی پناہ میں چلے جانا۔ اللاجِیء جمع لاجئون: پناہ گیر جو سیاسی یا دیگر وجوہات کے باعث اپنے ملک سے بھاگ کر کسی دوسرے ملک میں جا پناہ لے۔ اللَجأ (مص): بیوی،..... جمع ألجاء: قلعہ، جائے پناہ۔ التلجئۃ (مص) عند الفقہاء: ایسے فعل پر مجبور کرنا جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو۔ المَلجأ جمع مَلاجِیء: پناہ کی جگہ، قلعہ، مامن، پناہ لینا، پناہ گاہ، جہاں ہوائی حملوں کے دوران چھپا جاتا ہے۔

۲۔لَجّأ تَلجِئَۃً فلانٌ مالَہٗ: مال کو بعض ورثاء کیلئے خاص کر دینا۔ اللَّجأ: وارث۔

۳۔اللَّجأ: واحدہٗ لَجأۃ (ح): ایک قسم کا کچھوا جو خشکی اور تری دونوں جگہ رہتا ہے۔

لَجأ ـلَجأً و لجوءًا و لَجِیءَ ـلَجأً إلی: میں پناہ لینا؛ سے رجوع کرنا، کے پاس جایا کرنا، کا سہارا لینا، پر اکتفاء کرنا، سے معلومات حاصل کرنا، ذکر کرنا، کی طرف اشارہ کرنا۔ لَجَّأہ إلی: کو پر مجبور کرنا، پر کیلئے دباؤ ڈالنا، سے کوئی کام کرنے یا کرانے کے لئے قوت کا استعمال کرنا۔ ألجأ: بمعنی لَجَّأ، نیز ألجأہٗ: کو پناہ دینا، کی حفاظت کرنا، ألجأ امرہٗ إلی: کو اپنا مقصد یا معاملات سپرد کرنا۔ اِلتجأ إلی: فرار ہو کر کے پاس چلے جانا، میں پناہ لینا، سے رجوع کرنا، کے پاس جایا کرنا۔ مَلجأ جمع مَلاجِیء:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پناہ لینے کی جگہ، پناہ گاہ، جائے پناہ، مامن، ملجا، ماوی، گھر، مرکز، مشین گن کا پختہ اڈا، بنکر، زمین دوز جائے پناہ۔ مَلجَا الاطفال: نرسری، بچوں کا سکول۔ ملجأ الایتام: یتیم خانہ۔ ملجأ الشیوخ: عمر رسیدہ لوگوں کا گھر، ملجأ العمیان: اندھوں کا ادارہ۔ ملجأ العَجَزَة: بیمارستان۔ ملجأ مَضادٌّ للغارات الجویة: ہوائی حملوں سے محفوظ رہنے کی پناہ گاہ (air-raid shelter)۔ لاجِیء: پناہ کا طالب، پناہ گزین، پناہ گیر، تارک وطن، ہسپتال میں داخل۔ مُلتَجِیء: پناہ طلب کرنے والا، پناہ گزین، پناہ گیر۔

لجب: ۱۔لَجِبَ ـ لَجَبًا البحرُ: سمندر کا ہیجان میں آنا۔ــ القومُ: قوم کا شور مچانا۔ اللَجَب (مص): گھوڑوں کی ہنہناہٹ، بہادروں کا شور۔ کہا جاتا ہے: بحرٌ ذو لَجَبٍ: ہیجان میں آیا ہوا سمندر۔ اللَجِبُ: پرشور، شور مچانے والا، سخت شور مچانے والا۔ جیشٌ لَجِبٌ: بڑا اور چیخ و پکار والا لشکر۔

۲۔لَجُبَ ـ لَجُوبَةً ت الشاةُ: بکری کا کم یا بہت دودھ والی ہونا (ضد) لَجَّبَتِ الشاة: بکری کا کم یا بہت دودھ والی ہونا۔ لَجَّبَ هُ بالسیف: کو تلوار سے کاٹ ڈالنا۔ اللَّجْبَة واللِجْبَة واللُجْبَة واللَجَبة واللَجِبة واللِجُبَة جمع لِجاب و لَجَبات: کم یا زیادہ دودھ دینے والی بکری۔

۳۔المِلْجَاب: تیر جس پر پر تو لگائے گئے ہوں مگر پھل نہ لگایا گیا ہو۔

◯ لَجَب: شور، وغل، ہو ہا، ہلڑ، ہنگامہ، شور وغل، شور و غوغا، دنگا، شورش، اودھم مچانے والا ایک بڑا لشکر۔ لَجِب: پرشور، ہنگامہ کرنے والا، ہنگامہ خیز، غل مچانے والا، غوغائی۔

لجذ: ۱۔لَجَذَ ـ و لَجِذَ ـ لَجْذًا الرجلُ: کھانا۔ــ الحمارُ: گدھے کا پہلی بار چرنا۔ــ تِ الماشیةُ الکَلاءَ: مویشیوں کا گھاس کو اپنی زبانوں کے کناروں سے کھانا۔ــ من الشیء: تھوڑی سی چیز لینا۔ــ لَجْذًا و لَجَذًا الکلبُ الاناءَ: کتے کا برتن کو اندر سے چاٹنا۔

۲۔لَجَذَ ـ و لَجِذَ ـ لَجْذًا الرجُلُ: ایک دفعہ دیئے جانے کے بعد متواتر سوال کرنا۔ــ فلانًا: کو اکسانا۔ لَجَذَنی علی کذا: اس نے مجھے ایسے کام پر اکسایا

لجف: ۱۔لَجَفَ ـ لَجْفًا هُ: کو سخت مارنا۔

۲۔لَجِفَ ـ لَجَفًا تِ البئرُ: کنویں کے گرد اگرد کا کھودا جانا صفت لَجْفاء۔ لَجَّفَ البئرَ: کنویں کا اردگرد کھودنا۔ــ الشیءَ: کو اردگرد سے وسیع و کشادہ کرنا۔ تَلَجَّفَ البئرَ: کنویں کے اردگرد کو کھودنا۔ــ ت البئرُ: کنویں کا اردگرد سے کھدا ہوا ہونا، بیٹھ جانا۔ــ الوحشُ الکناسَ: جنگلی جانور کا پناہ گاہ کے ایک طرف کھودنا۔ اِلْتَجَفَ تِ البئرُ: کنویں کے اردگرد کا کھدا ہونا۔ اللَجَف (مص) جمع الْجاف: کنویں کے ایک جانب گڑھا، یا اس کے اطراف میں پانی کی گرائی ہوئی جگہیں، سیلاب کے بند ہونے کی جگہ، وادی کا وسط۔ اللِجاف جمع الْجِفَة و لُجُف: پہاڑ کا غار کے اوپر بڑھا ہوا حصہ، دروازہ کی دہلیز۔ اللَجِیفة: دروازہ کا پہلو۔ بئرٌ مُلْتَجِفَةٌ: بیٹھا ہوا کنواں، دھنسا ہوا کنواں۔

لجم: ۱۔لَجَمَ ـ لَجْمًا الثوبَ: کپڑا سینا۔ لَجَّمَ الماءُ فلانًا: پانی کا کے منہ تک پہنچنا۔ اَلْجَمَ الدابَّةَ: جانور کو لگام ڈالنا۔ــ الناقةَ: اونٹنی کو لگام سے داغ لگانا۔ــ القِدرَ: ہانڈی کے کڑے میں لکڑی ڈال کر اٹھانا۔ــ هُ عن حاجته: کو حاجت سے روکنا۔ کہا جاتا ہے: تکَلَّمَ فألْجَمْتُهُ و القَمتُهُ الحجرَ: وہ بولا تو میں نے اس کو روک دیا اور خاموش کر دیا۔ــ الماءُ فلانا: پانی کا کے منہ تک پہنچنا۔ اِلْتَجَمَ ت الدابةُ: جانور کے لگام لگنا۔ اِسْتَلْجَمَ فلانًا الفرسَ: کو گھوڑے کو لگام لگانے کیلئے کہنا۔ اللَجَمَة: لگام لگانے کی جگہ۔ اللجام: اونٹوں کا نشان۔ جمع لُجُم و لُجُم و الْجِمَة: لگام۔ کہا جاتا ہے: جاء فلان و قد لفظ لِجامهُ: فلاں شخص آیا تو تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی ضرورت کو چھوڑ چکا تھا۔ اتبِعِ الفرسَ لِجامَها: گھوڑے کے ساتھ لگام بھی دو تا کہ بخشش مکمل ہو۔ اللَجَّام: لگامیں بنانے والا۔ المُلْجَم: لگام لگانے کی جگہ۔

۲۔اللُجُم (ح): چھپکلی، مینڈکیں، ایک منحوس جانور، ہوا۔ اللَجَم جمع الْجام: متوسط زمین۔ و اللَّجَم بمعنی اللُجُم۔ اللُجام: جس سے بدشگونی لی جائے۔ اللُجُمَة: مسطح پہاڑ، زمین کا ایک نام۔ لُجُمَةُ الوادی: وادی کا کنارہ۔ اللَّجَمَة (ح)۔ اللجم کا واحد۔ زمین کا ایک نام۔ لَجَمَةُ الوادی: وادی کا کنارہ یا دہانہ۔ المِکْیالُ المُلْجَم: ڈھائی صاع، ایک پیمانہ۔

◯ لَجَمَ ـ لَجْمًا هُ: کو سینا، کی سلائی کرنا، بخیہ کرنا۔ لَجَّمَ و الْجَمَ هُ: (گھوڑے وغیرہ کو) لگام لگانا، لگام دینا، کی باگ کھینچنا، کو قابو میں رکھنا۔ــ هُ: کو باز رکھنا، روکنا، کھینچنا، جکڑنا، دبانا، کو خاموش کر دینا، پر لگام رکھنا۔ اِلْتَجَمَ: لگام لگنا، لگام دیا جانا، باز رہنا، جکڑا جانا، دبایا جانا، روکا جانا، سدھایا جانا، مانوس کیا جانا، مطیع کیا جانا، کی قوت سے کام لیا جانا۔ لِجام جمع الْجِمَة و لُجُمُ: لگام، باگ ڈور، عنان، راس، باگ مَلْجُوم و مُلْجَم: لگام دیا ہوا، جکڑا ہوا، دبایا ہوا، جس کی قوت سے کام لیا گیا ہو۔

لجن: ۱۔لَجَنَ ـ لَجْنًا و لَجَّنَ ورق الشجر و نحوَهُ: پتوں میں آٹا یا جو ملا کر چارہ تیار کرنا۔ لَجِنَ ـ لَجَنًا به: سے چمٹنا۔ تَلَجَّنَ الشیءُ: لیسدار ہونا۔ــ القومُ: پتوں میں آٹا یا جو ملا کر اونٹوں کا چارہ تیار کرنا۔ــ رَأسُهُ: سر کا میلا ہونا۔ اللَجِن: میلا۔ اللجِین: پتوں میں آٹا یا جو ملا کر تیار کیا ہوا چارہ۔

۲۔لَجَنَ ـ لُجُونًا و لِجَانًا فی المشی: آہستہ چلنا۔ــ البعیرُ: اونٹ کا اڑیل ہونا۔ اللَجُون من الجمال و النوق: سست رفتار اونٹ یا اونٹنی۔

۳۔اللَجْنَة: کمیٹی (Committee)، کسی مسئلہ پر غور کرنے کی مجلس۔ یہ یا تو یونانی لفظ ہے لیجیون سے یا لیجیو سے۔ لاتینی لفظ ہے۔ اللُجَیْن: چاندی (مصغر ہے اس کا مکبر نہیں آتا)۔ اللُجَیْنِیَّة: دراہم (چاندی کے)۔

◯ لَجِنَ ـ لَجَنًا ب: سے چمٹنا، چمٹ جانا، لپٹنا، سے لگا رہنا، چسپاں ہونا۔ لَجْنَة جمع لَجْنات و لِجان و لِجَن: بورڈ، کونسل، کمشن، کمیٹی لجنة التحقیق: تحقیقاتی کمیٹی۔ لجنة اِداریة: انتظامیہ بورڈ، کمیٹی۔ لجنة الاُمتحان: ممتحین کا بورڈ، امتحانات کا بورڈ۔ لجنةُ الانضباط: تادیبی بورڈ، انضباطی بورڈ۔ لجنةٌ تنفیذیة: مجلس عاملہ (Executive Committee)۔ لجنة صُلحِیَة: ثالثی بورڈ۔ لجنة فرْعِیَة: سب کمیٹی (subcommittee)۔ لجنةٌ قارَّةٌ (مُسْتَدِیْمة): سٹینڈنگ کمیٹی، مستقل مجلس یا مجلس قائمہ۔ لجنةُ المُراقبة: بورڈ آف ڈائریکٹرز (board of directors)۔ لُجَیْنِی: چاندی کا، چاندی سے متعلق۔

لجی: اِلْتَجَی اِلی غیر قومه: کسی اور قوم کی طرف منسوب ہونا۔ اللَّجَاة (ن): ایک پہاڑی پودا، جس کے پھول سنہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔

لحّ: ۱۔لَحَّ ـ لَحًّا و لَحَحًا ت العینُ: آنکھ کا کیچڑ سے چپکنا۔ اَلَحَّ فی السؤال: سے سوال میں اصرار کرنا، بلاتوقف التجا کرنا۔ــ الجملُ: اونٹ کا اڑیل ہونا۔ــ تِ المطیُّ: سواری کا تھک کر سست ہونا۔ــ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

السحابُ بالمطر: بادل کا لگاتار برسنا۔ — القتبُ
على ظهر الدابّة: پالان کا جانور کی پیٹھ کو زخمی کرنا۔
تَلَحَّحَ عليه: سے بلا توقف التجا کرنا۔ اللاحّ فا۔
مكانٌ لاحٌّ و لَحِحٌ: تنگ جگہ۔ اللَحّ (مص): کہا
جاتا ہے: هو ابنُ عمّی لحًّا: وہ میرے چچا کا بیٹا
ہے یعنی قرب کے لحاظ سے قریبی ہے۔ اس کا نصب
حال کی وجہ سے ہے کیونکہ اس سے پہلے معرفہ ہے۔
نکرہ کے ساتھ کہا جائے گا هو ابنُ عمٍّ لحٍّ اس
صورت میں یہ عم کی صفت ہے۔ اس طرح مونث،
تثنیہ اور جمع آتا ہے۔ المِلْحَاح: بہت التجا کرنے
والا، جانور کی پیٹھ زخمی کرنے والا پالان۔ سحابٌ
مِلحَاحٌ: لگاتار برسنے والا بادل۔
۲۔ لَحْلَحَ القومُ: اپنی جگہ پر قائم رہنا، دور چلے جانا
(ضد)۔ عوام کہتے ہیں: لَحْلَحَ عليه کے ساتھ
رہنا، کے پاس اکثر آتے جاتے رہنا۔ تَلَحْلَحَ القومُ:
اپنی جگہ پر رہنا، دور چلا جانا (ضد)۔ اللَحْلَح: تنگ
جگہ۔ المُلَحْلَح: قوم کا بڑا، سردار۔
○ لَحَّ لَحًّا: (رشتہ داری کا) قریبی ہونا۔ الَحَّ: منت
سماجت کرنا، التجا کرنا، سخت اصرار کے ساتھ درخواست
کرنا — في: پر اصرار کرنا۔ — على: پر ٹوٹ پڑنا،
کے پیچھے پڑ جانا، کو دق کرنا، تنگ کرنا۔ على في/ب:
پر کسی کام کو کرنے کے لئے زور دینا، پر کیلئے دباؤ ڈالنا۔
لَحِحٌ و لاحّ: نزدیکی، قریبی، تنگ۔ لَحُوح:
ضدی، ہٹ کا پکا، سرکش، ہٹیلا، منہ زور، ثابت قدم،
بات کا پکا۔ مِلحَاح: ضدی، ہٹ کا پکا، سرکش، ہٹیلا،
منہ زور، ثابت قدم، بات کا پکا، پیچھے پڑ جانے والا،
مصر، چم چچڑ، سر پر سوار ہونے والا۔ في الحاحٍ یا
بالحاحٍ: تاکید سے، با اصرار، سنجیدگی سے، فوراً۔
لحب: لَحَبَ ـ لَحْبًا الطريقَ: راستہ پر چلنا، راستہ کو
واضح کرنا — الشيءَ: پر اثر کرنا — بفلانٍ
الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا — ہ بالسيف: کو تلوار
سے مارنا — اللحمَ: گوشت کو لمبائی میں کاٹنا —
اللحمَ عن العظمِ: گوشت ہڈی پر سے چھیلنا۔
— الرجلُ: سیدھا گزرنا یا تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے: مرّ
يَلْحَبُ: وہ تیز تیز چلتا ہوا گزرا۔ — لُحُوبًا الطريقُ:
راستہ کا واضح ہونا — ظهرُ الفرس: گھوڑے کی
پیٹھ کا ڈھلان میں ہموار ہونا۔ لَحِبَ ـ لَحَبًا
الرجلُ: کو بڑھاپے کا لاغر و دبلا کر دینا — لحمُ
زيدٍ: زید کا لاغر ہونا۔ لَحَّبَ الشيءَ: پر اثر کرنا، کو
ٹکڑے ٹکڑے کرنا — فُلانًا: کو ذلیل کرنا — ہ
بالسيف: کو تلوار سے مارنا۔ اِلْتَحَبَ الطريقَ:
راستہ پر چلنا۔ اللاحِب: کھلا، واضح راستہ۔ طريقٌ
لاحِبٌ: صاف واضح راستہ، (ف) چڑھنے اترنے
کا ذریعہ، سیڑھی۔ اللَحْب (مص): کھلا اور واضح اور
صاف راستہ۔ اللَحِيب: اونٹنی جس کی پیٹھ پر گوشت
تھوڑا ہو۔ المِلْحَب: گالی دینے والا، بدزبان، کاٹنے
یا چھیلنے کا اوزار، فصیح زبان۔ المَلْحُوب مفع۔
رجلٌ ملحوبٌ: لاغر آدمی۔ طريقٌ مَلْحُوبٌ:
کھلا صاف راستہ۔ طريقٌ مُلَحَّبٌ: کھلا صاف
راستہ۔
○ لاحِب: کھلی، گزرنے کے قابل سڑک۔ الکٹروڈ
(electrode)۔
لحت: لَحَتَ ـ لَحْتًا العصا: لاٹھی کو چھیلنا — فلانًا
بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا — الرجُلَ: سے سب
کچھ چھین لینا۔ کہا جاتا ہے: لَحَتُوكم كما يُلْحَتُ
القضيبُ: جس طرح چھڑی کی چھالی اتاری جاتی
ہے اسی طرح انہوں نے تمہاری کھال اتار ڈالی۔
اللُحْت (مص): خالص، سچا۔ اللُحَاتَة: اتاری
ہوئی چھال۔
لحج: ۱۔ لَحَجَ ـ لَحْجًا اليه: کے پاس جانا۔ لَحِجَ ـ
لَحَجًا الشيءُ: تنگ ہونا — السيفُ و نحوُهُ:
تلوار کا میان میں چٹ کر نہ نکلنا — بالمكان: کسی
جگہ میں پڑا رہنا۔ اللحيُ: کج ہونا صفت الحج۔
لَحَّجَ عليه الخبرَ: کو غلط خبر دینا۔ لَحُوجَ عليه
الامرَ: کو گڈمڈ کر کے غلط بتانا۔ الحَجَہُ اليه: کو پر
مجبور کرنا۔ تَلَحَّجَ الامرَ على فلان: کو کے سامنے
غلط پیش کرنا۔ اِلْتَحَجَ اليه: کی طرف مائل ہونا، کی
طرف جھکنا — فلانًا اليه: کو کی طرف مائل کرنا اور
مجبور کرنا۔ اِسْتَلْحَجَ البابُ: دروازہ کا بند ہونا۔
اللُحْج جمع الحاج: اونٹ کا پالان۔ مكانٌ
لَحِجٌ: تنگ جگہ۔ المَلاحِج: تنگ جگہیں یا
حالتیں۔ المَلاحِيج: پہاڑوں میں تنگ راستے۔
المُلْحَج: جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے: إن في الناسِ
لَمُلْحَجًا: بیشک لوگوں میں پناہ کی جگہ ہے۔ قفلٌ
مُلْحَجٌ: بند قفل۔ المُلتحج: جائے پناہ۔
۲۔ لَحَجَ ـ لَحْجًاہُ: کو مارنا — ہُ بعينه: کو نظر لگانا۔
لَحِجَ ـ لَحَجَاتٍ عينُهُ: آنکھ کا کیچڑ والی ہونا۔
اللُحْج (ع ا): آنکھ کا گڑھا۔ اللُحْج جمع
الحاج: آنکھ کا گڑھا، گھر کا گوشہ، پہاڑ کا ابھرا ہوا
حصہ، وادی کا کنارہ۔ اللَحَج: آنکھ کا کیچڑ۔
○ لَحَج: عدن کی ایک سلطنت اور شہر کا نام۔
لحد: لَحَدَ ـ لَحْدًا الميتَ: کو دفن کرنا۔
اللحدَ: بغلی قبر کھودنا — للميت: میت کے لئے بغلی
قبر کھودنا — السهمُ عن الهدف: تیر کا نشانہ سے
چوک جانا — إلى فلانٍ: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔
— في الدين: مذہب سے پھر جانا، ملحد ہو جانا —
علی فی شهادته: کا میرے خلاف گواہی میں
گنہگار ہونا۔ لاحَدَ مُلاحَدَةً صاحِبَهُ: ہر ایک کا
دوسرے سے کجی اختیار کرنا۔ الحَدَ إلحادًا الميتَ
واللحدَ و للميتِ: مردے کو دفن کرنا، لحد کھودنا،
مردے کے لئے بغلی قبر کھودنا — عن الدين: دین
سے پھر جانا، دین میں طعن کرنا، جھگڑا کرنا، احکام
خداوندی کو ترک کرنا، ظلم کی طرف مائل ہونا اور اللہ
تعالیٰ کی ذات میں شک کرنا — في الحَرَم: حرم کی
بے حرمتی کرنا — السهمُ الهدف: تیر کا نشانہ کے
ایک پہلو میں لگنا — به: کو بدنام کرنا، پر عیب لگانا۔
اِلتحَد عن الدين: دین سے پھر جانا۔ إلى كذا:
کی طرف مائل ہونا — إلى فلان: کی پناہ لینا۔
اللاحِد (فا): گورکن۔ قبرٌ لاحِد: بغلی قبر۔
اللَحْد واللُحْد ج الحاد و لُحُود: بغلی قبر، قبر۔
الإلحَاد: الحَد کا مصدر، کفر۔ اللَحُود: مائل، جھکنے
والا۔ المُلْحِد (فا) جمع مَلاحِدَة و مُلحِدُون:
کافر۔ المَلاحِدَة: دہریہ، نیچری (کفار کا ایک فرقہ
جو دہریئے اور نیچری کہلاتے ہیں)۔ المُلْحَد:
بغلی قبر، قبر۔ المَلْحُود: بغلی قبر، قبر۔ قبرٌ مَلْحُودٌ:
بغلی قبر۔ المِلْحَادَة: دین میں بہت طعن کرنے والا۔
المُلتحَد: جائے پناہ۔ لحاد: گورکن۔
○ اِلحادی: کفر، بے دینی، دہریت سے متعلق۔
لحز: ۱۔ لَحَزَ ـ لَحْزًا ہُ: سے اصرار کرنا، پر زور دینا۔
لَحِزَ ـ لَحَزًا: بخیل ہونا صفت لِحْزٌ و لَحِزٌ۔
تَلَحَّزَ: بخیل ہونا۔ تلاحَزَ القومُ: گفتگو کرنے
میں مقابلہ کرنا — الصِبيانَ: بچوں کا آپس میں
اشعار کا تبادلہ کرنا۔ المَلْحَز جمع مَلاحِز: تنگ جگہ،
الجھاؤ، پیچ، مخمصہ، جنجال۔ کہا جاتا ہے: وقعوا في
المَلاحِز: وہ مخمصوں میں پڑ گئے۔ المُتلاحِز من
الشجر: ایک دوسرے میں گھسے ہوئے درخت۔
۲۔ تَلَحَّزَ: ترش چیز کے لئے منہ میں پانی بھر آنا۔
۳۔ تَلَحَّزَ: لڑائی یا سفر کے لئے کپڑے سمیٹنا۔
۴۔ تَلَحَّزَ عنه: سے پیچھے رہ جانا۔
لحس: ۱۔ لَحِسَ ـ لَحْسًا الدودُ الصوفَ: اون کو
کیڑا لگنا — الجرادُ الخضرَ: ٹڈی کا سبزی کو
چاٹ جانا — لَحْسًا و لَحْسَةً و لُحْسَةً و
مَلْحَسًا القصعةَ: پیالے کو زبان یا انگلیوں سے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جاٹنا۔اس سے ضرب المثل ہے: أَسْرَعُ من لحس الكلب انفهُ: کتے کے اپنی ناک چاٹنے سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ لَحَّسَ ہُ الشيءَ: کو کوئی چیز چٹانا۔ اَلْحَسَتِ الارضُ: زمین کا شروع سبزہ نکالنا۔ ۔ الماشيةَ: مویشی کو تھوڑا سا چرانا۔ اِلْتَحَسَ منه حقّهُ: سے اپنا حق لینا۔ سنةٌ لاحِسةٌ: سخت سال۔کہا جاتا ہے: أَخَذَتْهُم لَوَاحِسُ: انہیں سخت سالوں نے آلیا کہ تمام سبزہ چاٹ ڈالا۔ لاحِسةُ السُّكَّر (ح): دیمک۔ اللاحُوس: منحوس، حریص، جو ہر چیز جسے حاصل کر سکے لے لے۔ اللَحَس: سبزہ جس کے نمودار ہونے پر اونٹ بکریاں وغیرہ اسے نہ کھا سکنے پر چاٹنے لگیں۔کہا جاتا ہے: مالكَ عندى لُحْسَةٌ: میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں۔ اللَحّاس: بہت چاٹنے والا۔ اللَحّاسَة: لحّاس کا مؤنث۔(ح): شیرنی۔ اللَحُوس: مکھی کی طرح مٹھاس کا پیچھا کرنے والا، حریص۔ المَلْحُوس و المُلْحِس: لالچی جو ہر چیز جسے حاصل کر سکتا ہو لے لے۔ المِلْحَس: لالچی، بہادر۔

۲۔اللُحْسُم جمع لَحَاسم: وادی کا تنگ نالہ۔

○ لَحَسَ ـلَحْسًا ہ: کو چٹ کر جانا (بالخصوص کیڑے کا اون کو)، کو کھا جانا، کو بے تحاشا کھانا۔ لَحِسَ ـلحسًا و لَحْسَةً و لُحْسَةً و مَلْحَسًا ہ: کو چاٹنا، چاٹ ڈالنا، کو چپڑ چپڑ پی جانا، کا سڑپا لگانا، کو سڑکنا۔ مَلْحُوس: چاٹا ہوا، فاتر العقل۔

لحص: اللَحْصَ ـلَحْصًا خبرَ فلان: کی خبر خوب اچھی طرح معلوم کرنا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرنا۔ لَحَّصَ خبرَهُ: کی خبر خوب اچھی طرح معلوم کرنا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرنا۔ اِلْتَحَصَ البيضَةَ و نحوها: انڈے وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا اپنانا۔

لَحِصَ ـلَحَصًا في الامر: میں لگ جانا۔ لَحَّصَ في كذا: کو مشکل میں ڈالنا، مصیبت میں مبتلا کرنا، سخت کرنا، مضبوط کرنا۔ ۔ ہُ عن كذا: کو سے روکنا۔ ۔ الكتابَ: کو پختہ کرنا۔ اِلْتَحَصَ الامرُ: سخت ہونا۔ ۔ ہُ عن كذا: کو سے روکنا۔ ۔ ہُ إلى كذا: کو پر مجبور کرنا۔ ۔ ہُ الشيءُ: کے ساتھ لگا رہنا۔ ۔ تِ الإبرةُ: سوئی کا ناکہ بند ہونا۔ ۔ تْ عينُهُ: آنکھ کا کیچڑ سے چپک جانا۔ اللَحَص: اوپر کے پپوٹے کی سلوٹ۔ لحاص: تنگی، مصیبت، پریشانی۔ اللَحِيص: تنگ۔ المَلْحَص: جائے پناہ۔

اللَحَصان: دوڑ، تیز رفتاری، سرعت۔

لحط: لَحَطَ ـلَحْطًا ہُ: پر پانی چھڑکنا، کی آرائش کرنا۔

اِلْتَحَطَ الرجُلُ: غضبناک ہونا۔

لحظ: اللَحَظَ ـلَحْظًا و لَحَظَانًا فلانًا و إلى فلان بالعين: کو گوشہ چشم سے دیکھنا، پر نظر رکھنا۔ لَحْظًا و لَحَّظَ تَلْحِيظًا البعيرَ: اونٹ کے داغ لگانا۔ لاحَظَ لِحاظًا و مُلاحَظَةً ہُ: پر نظر رکھنا، ایک دوسرے کو گوشہ چشم سے دیکھنا۔ تَلَحَّظَ الشيءُ: تنگ ہونا۔ اللاحِظَة جمع لَوَاحِظ: لاحظ کا مؤنث، آنکھ۔ اللحْظ (مص) جمع لِحاظ و ألحاظ: آنکھ کا اندرونی حصہ۔ اللَحْظَة جمع لَحَظات: لحظ کا اسم مرہ۔کہا جاتا ہے جلست عنده لحظةً: یعنی میں اس کے پاس آنکھ کھلنے اور بند ہونے یا پلک جھپکنے جتنی دیر بیٹھا۔ایک لحہ بیٹھا۔ اللَحاظ و اللِحاظ جمع لُحُظ: کنپٹی کے رخ میں آنکھ کا گوشہ، آنکھ کے نیچے کا نشان۔ اللَحّاظ: سخت دیکھنے والا۔ اللَحُوظ: تنگ۔ التَلْحِيظ (مص): آنکھ کے نیچے کا داغ۔ المَلْحَظ جمع مَلاحِظ: دیکھنا، دیکھنے کی جگہ۔

۲۔تَلاحَظَتِ الأشياءُ: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔کہا جاتا ہے نحو الهم متشاكلة متلاحظة: ان کے حالات ایک دوسرے جیسے ہیں۔ اللَحِيظ: شبیہ، نظیر۔

۳۔اللِحاظ: گھر کا صحن۔ لِحاظُ السهم: تیر کے اوپر کے پر۔ لِحاظُ الريشة: نیچے کے سفید پر۔

○ لَحَظَ ـلَحْظًا و لَحَظَانًا ہ/ ہ: کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کو دیکھنا، پر نظر ڈالنا، (حیرانی یا شک کی نظر سے) دیکھنا، کی طرف دیکھنا۔ ۔ ہ/أن: کو دیکھنا/ دیکھنا کہ۔ لاحَظَ ہ/ ہ: کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کو دیکھنا، پر نظر ڈالنا، کو (حیرانی یا شک کی نظر سے دیکھنا)، کی طرف دیکھنا۔ ۔ ہ: کو دیکھنا، کو دیکھ لینا۔ ۔ ہ/أن: کو دیکھنا، دیکھنا کہ...... کے بارے میں اظہار خیال کرنا، کہنا کہ، رائے زنی کرنا کہ۔ ۔ ہ: کو سمجھنا، خیال کرنا، کو یاد رکھنا، کو ذہن میں رکھنا، پر توجہ کرنا، کی نگرانی کرنا۔ لاحَظَ عليه شيئًا: میں کچھ دیکھنا۔ ممّا يُلاحَظُ أنَّ: دیکھا جائے گا کہ؟ ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔ لَحْظ جمع ألحاظ: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر، نظر، نگاہ۔ لَحْظَة جمع لحظات: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر، جھلک، لمحہ، آن، گھڑی، لحظہ۔ اللحظة الراهنة: موجودہ لمحہ، اس وقت۔ في لَحْظَة: ایک لمحہ میں، فوراً، فی الفور۔ في هذه اللحظة: اس وقت۔ لَحَظاتٍ: چند لمحوں کے لئے۔ لَحْظَتَئِذٍ: اُس لمحہ۔ مُلاحَظة جمع ملاحظات: دیکھنا، ادراک، مشاہدہ، اظہار خیال، تبصرہ، کہنا، رائے زنی، اتفاقی بیان، شرح (کی) پابندی، پر عمل، توجہ، نگرانی، انتظام، کنٹرول۔ ذو ملاحظة: قابل ذکر، قابل توجہ، مشہور، نمایاں، ممتاز۔ لاحظة جمع لَوَاحِظ: آنکھ، سرسری نظر، نگاہ۔ مَلْحُوظ: مشہور، قابل ذکر، قابل لحاظ، غیر معمولی۔ مَلْحُوظة جمع مَلْحُوظات: مشاہدہ، اظہار خیال، تبصرہ، ریمارک، شرح، نشان، علامت۔ مُلاحِظ: ڈائریکٹر، سپرنٹنڈنٹ، اوورسیر، سپروائزر، فورمین۔ و المُلاحَظ أنَّ: ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔

لحف: اللَحَفَ ـلَحْفًا ہُ: کو لحاف وغیرہ سے ڈھکنا۔ ۔ ہُ الثوبَ: کو کپڑے پہنانا۔ ۔ النارَ الحطبَ: لکڑیوں کو آگ پر ڈالنا۔کہا جاتا ہے لَحَفَنِي فضلَ لحافِهِ: اس نے مجھ کو زائد عطیہ دیا۔ لُحِفَ القمرُ: چاند کا آخری راتوں میں ہونا۔ لَحَفَ إزارَهُ: چادر کو تکبر سے زمین پر گھسیٹنا۔ لاحَفَ ہُ: کے ساتھ رہنا۔ کہا جاتا ہے فلانٌ يضاجع السيفَ و يلاحفُ الخوفَ: فلاں شخص تلوار کے ساتھ لیٹتا ہے اور خوف کے ساتھ رہتا ہے۔ لاحفه: کی مدد کرنا۔ اَلْحَفَ الرجُلُ: تکبر سے چادر زمین پر گھسیٹنا۔ ۔ السائلُ: اصرار سے مانگنا۔ ۔ شارِبَهُ: مونچھ کو بہت نیچے سے کاٹنا۔ ۔ الظفرَ: ناخن جڑ سے اکھیڑنا۔ ۔ ہُ الثوبَ: کو کپڑے پہنانا، کپڑوں کو اس کا لحاف بنانا۔ ۔ الرجُلَ: کے لئے لحاف خریدنا۔ ۔ ضيفَهُ: سخت سردی میں اپنا بستر اور لحاف مہمان کو دینا۔ تَلَحَّفَ و التَحَفَ: اپنے لئے لحاف بنانا۔ ۔ باللحاف و غيره: لحاف وغیرہ اوڑھنا۔ اللِحْفَة: لحف کا اسم نوع۔ لیٹنے کا انداز، لیٹے ہوئے کی حالت۔ اللِحاف جمع لُحُف و المِلْحَف جمع مَلاحِف: اوڑھنے کا کپڑا، دوسرے لباس پر پہنا ہوا لباس۔ المِلْحَفَة جمع مَلاحِف: اوڑھنے کا کپڑا، دوسرے لباس پر پہنا ہوا لباس، لحاف پر پہنائی ہوئی چادر جو لحاف کو میلا ہونے سے بچائے اور سردی کو روکنے میں زیادہ طاقت ور ہو۔

۲۔لَحَفَ ـلَحْفًا ہُ: کو مکا مارنا۔ ۔ ہُ سهمًا: کو تیر مارنا۔ اَلْحَفَ به: کو نقصان پہنچانا، کو زخمی کرنا۔

۳۔لَحَفَ ـلَحْفًا الشيءَ: کو چاٹنا۔ ۔ عنه اللحمَ: سے گوشت اتارنا۔ لُحِفَ لَحْفَةً الرجُلُ في مالِهِ: کے مال میں سے کچھ جاتا رہنا۔

۴۔اَلْحَفَ الرجُلُ: دامنِ کوہ میں چلنا۔ اللِحف: دامن کوہ۔

○ لَحَفَ ـلَحْفًا ہُ: کو ڈھکنا، کو کمبل وغیرہ میں لپیٹنا۔ اَلْحَفَ ہُ: کو ڈھکنا، کو کمبل وغیرہ میں لپیٹنا۔ اَلْتَحَفَ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فوراً درخواست کرنا یا طلب کرنا۔ تَلَحَّفَ و اِلْتَحَفَ
ب: اپنے آپ کو میں لپیٹنا۔ اپنے آپ کو سے ڈھکنا۔
لحف: دامن کوہ۔ لِحاف جمع لُحُف و اَلْحِفة:
چادر، کھیس، کمبل، بستر کی چادر، پلنگ پوش، لحاف،
رضائی، گرم گلوبند، شال۔ مِلْحَف و مِلْحَفَة جمع
مَلاحِف: چادر، شال، کھیس، کمبل۔ اِلْحاف:
(درخواست دہندہ کا) اصرار۔ مُلْتَحِف ب: میں لپٹا
ہوا، سے ڈھکا ہوا۔

لحق: ا۔ لَحِقَ ۔ لَحْقًا و لَحاقًا فُلانًا و بفلان: سے
آملنا، کے پاس آپہنچنا ۔۔۔ اِلَی قومِ کذا: سے
وابستہ رہنا۔ لُحُوقًا الفرسُ: گھوڑے کا لاغر ہونا۔
۔۔۔ الثمنُ فلانًا: پر قیمت کا لازمی ہونا واجب ہونا۔
لاحَقَ ہٗ: کا پیچھا کرنا۔ اَلْحَقَ ہٗ: سے آملنا، کے پاس
آپہنچنا۔ ۔۔۔ ہٗ بفلان: کو سے ملادینا۔ تَلاحَقَ: ایک
دوسرے کے پیچھے جانا۔ ۔۔۔ ت المطایا: بعض سواری
کا دوسری سواری سے آملنا۔ اِلْتَحَقَ بہٖ: سے آملنا،
سے وابستہ ہونا۔ اِسْتَلْحَقَ ہٗ: کو اپنے خاندان کی
طرف منسوب کرنا۔ اللَّاحِق (فا): دوسری بار کا
پھل۔ ابو لاحق (ح): باز۔ اللَّاحِقَة جمع
لَوَاحِق: لاحق کا مؤنث: دوسری بار کا پھل۔ اللَّحَق:
لوگ جو دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد ان سے
آملیں ۔۔۔۔ جمع اَلْحاق: پہلی چیز کے ساتھ ملنے والی
چیز، دوسری بار کا پھل، زائد چیز، ضمیمہ۔ لَحَقُ الغنم:
بھیڑ بکریوں کے بچے جو ان سے آملنے کو ہوں۔
اللِحاق: کمان کا غلاف۔ اللُّوَیْحِق (ح): ایک
شکاری پرندہ۔ المِلْحاق: تیز رفتار اونٹنی جس سے
اونٹ آگے نہ بڑھ پائیں، تیز تیر پھینکنے والی کمان۔
المُلْحَق: خاندان سے ملایا ہوا لے پالک، زائد چیز،
تتمہ، ضمیمہ، انڈکس۔

۲۔ اِسْتَلْحَقَ الرجلُ: وادی کی کھلی زمین میں کھیتی کرنا۔
الاَلْحاق (مفرد اللَّحَق): وادی کی وہ جگہیں
جہاں سے پانی کا بہاؤ بند کرکے بوائی کی جائے، دریا
برآمد زمین، (alluvial soil)۔

○ لَحِقَ القِطار او بالقطار: ٹرین پکڑنا ۔۔۔ ب: کو
چھونا، سے چمٹنا، کے ساتھ وابستہ ہونا، کے پاس رہنا،
کے ساتھ شامل ہوجانا، کے ساتھ چلے آنا، کا جانشین
ہونا، کے بعد آنا، سے متحد ہونا، کے پاس جانا ۔۔۔
بمدرسة: سکول میں داخلہ لینا۔ ۔۔۔ بخدمته: کی
ملازمت اختیار کرنا۔ لحق ہٗ: کو مغلوب کرنا، پر نازل
ہونا، کے دل پر اثر کرنا، کو تکلیف میں ڈالنا (بیماری،
خوف، نقصان وغیرہ کا)، کے لئے لازمی ہونا، پر
واجب ہونا، پر فرض ہونا، کے لئے ضروری ہونا۔
لاحَقَ ہٗ: کا پیچھا کرنا، کا تعاقب کرنا۔ اَلْحَقَ ہٗ
ب: کو سے منسلک کرنا، کو سے جوڑنا، کو میں شامل
کرنا، کو میں ملفوف کرنا، کو سے متعلق قرار دینا ۔۔۔ ہٗ
ب: کو کے ذریعہ بڑھانا، زیادہ کرنا ۔۔۔ ہٗ ب: کو کسی
تنظیم میں داخل کرنا، کو کسی تنظیم میں رکن کے طور پر
داخل کرنا، کو میں بھرتی کرنا، کا میں نام درج کرنا ۔۔۔
ب ہٗ: کو (زخم وغیرہ لگانا)، کو (سزا) دینا، کو
(تکلیف/نقصان) پہنچانا۔ اِلْتَحَقَ ب: (کسی تنظیم،
سوسائٹی وغیرہ میں) داخل ہونا، کا رکن ہونا، ملازمت
اختیار کرنا۔ تَلاحَقَ: پیچھے پیچھے لگا رہنا، ایک دوسرے
کا تعاقب کرنا، مسلسل سلسلہ میں گھل مل جانا، غیر محسوس
طور پر ایک دوسرے میں منتقل ہونا۔ اِلْتَحَقَ ب:
کے پاس پہنچنا، کو جالینا، میں شامل ہونا، کے ساتھ
چلنا۔ ب: کسی ملازمت کو اختیار کرنا، سکول یونیورسٹی
میں داخلہ لینا، ۔۔۔ فوج، تنظیم وغیرہ میں شامل ہوجانا،
کا رکن بن جانا ۔۔۔ ب: کسی شعبہ میں داخل ہوجانا،
سے وابستہ ہوجانا، سے ملحق ہوجانا۔ اِلْتَحَقَ: لگاؤ
ہونا، جانثار، وفادار ہونا۔ التحق بالحکومة:
حکومت کی ملازمت کرلینا۔ اِسْتَلْحَقَ ہٗ: کو شامل
کرنا۔ لَحَق جمع اَلْحاق: سیلاب کی چھوڑی ہوئی
قابل کاشت زمین، دریا برآمد زمین ۔ سابقًا ۔۔۔
لاحقًا: پہلے ۔۔۔ بعد میں، بعد ازاں۔ اِسْتِلْحاق:
اِلْحاق (annexation)، ولدیت کا اقرار، اعتراف
(avowal of paternity)۔ لاحِق: آملنے والا،
آپہنچنے والا، بعد کا، اگلا، ذیل کا، حسب ذیل، اضافی،
بڑھایا ہوا، شامل کیا ہوا، ملحق شدہ، جوڑا ہوا، منسلک،
چسپاں شدہ، لگایا ہوا، نتھی شدہ، ٹانکا ہوا۔ لاحِقَة ج
لَواحِق: تعلیق، ذیل، ملحقات، متعلقات، ساز و
سامان، متعلقہ چیزیں، زوائد، ماتحت علاقے۔
مُلْحَق ب: کے ساتھ شامل، منسلک، نتھی، میں
ملفوف۔ مُلْحَق: متصل، ملحق، ملا ہوا، ملحقہ، ہمسایہ
(ہمسائیگی میں)؛ حاشیہ میں لکھا یا چھپا ہوا، حاشیہ پر،
متعلق، مناسب، موزوں، مشتمل، ہمراہ، ساتھ، متحد،
ضم شدہ، ضمیمہ، تکملہ جمع مُلْحَقات و ملاحق: ذیل،
ملحقات، تتمہ، اضافہ، بیشی، مکرر، عبارت مابعد،
عبارت مزید، نوشتہ مابعد، ضمیمہ (اخبار، رسالہ یا کتاب
کا) زائد کاغذ کا تختہ، ملفوف، تعلیق، ذیلی، ملحقات،
آویزاں، آگے نکلا ہوا یا بڑھایا یا جھکا ہوا، لاکٹ،
تعویذ، ٹیگ (tag)، لیبل، چٹ، پیچھے لگی ہوئی گاڑی،
گاڑی، ذیلی مکان، مکان کا چھوٹا ملحقہ حصہ
(annexe)، ذیلی عمارت، عمارت کا بازو، پہلو، نکلا ہوا
حصہ، عمارت میں کیا گیا اضافہ۔ جمع مُلْحَقون:
اتاشی (attache)، معاون، مددگار (assistant)
جمع مُلْحَقات: الحاقی صوبے، ماتحت علاقے۔
ملحقٌ تجاریٌّ: تجارتی اتاشی (Commerical
attache)۔ ملحق بحری: بحری اتاشی (naval
attache)۔ ملحق جوّی: ہوائی اتاشی (air
attache)۔ ملحق عسکری یا ملحق
حربی: ملٹری اتاشی۔ ملحق صُحُفِي: پریس
اتاشی۔ ملحق فخری: رسمی اتاشی (titular
attache)۔ مُتَلاحِق: لگاتار، مسلسل، پے در
پے، متواتر۔ متلاحقُ الحرکة: مسلسل حرکت
میں۔

لحك: لَحَكَ ۔ لَحْكًا الشيءَ بالشيءِ: چیز کو چیز سے
چمٹانا ۔۔۔ الصبيَّ: بچہ کے منہ میں دوا ٹپکانا۔ لَحِكَ
لَحْكًا العسلَ: شہد چاٹنا۔ لاحَكَ الشيءَ
بالشيءِ: چیز کو چیز سے چمٹانا۔ لُوحِكَ ت فقارُ
ظهرہ: پیٹھ کے منکوں کا ایک دوسرے میں پھنسا ہوا
ہونا۔ تلاحَكَ الشيءُ بالشيءِ: چیز کو چیز سے
چمٹانا ۔۔۔ الشيءُ: مخلوط ہونا۔ البنیانُ: عمارت
کا مرمت شدہ ہونا۔ اللُحَكة و اللُحَكا (ح):
ریت میں رہنے والی ایک قسم کی چھپکلی۔ المَلاحِك:
تنگیاں، تنگ جگہیں، تنگ درے۔

لحم: ا۔ لَحَمَ ۔ لَحْمًا الامرَ: کو مضبوط و مستحکم کرنا۔
الصائغُ الفِضّةَ: سنار کا چاندی کو ٹانکا لگانا۔ لَحِمَ ۔
لَحْمًا بالمکان: کسی جگہ میں ٹک کر رہنا۔ لاحَمَ
الحَبْلَ: رسی مضبوط بٹنا۔ ۔۔۔ الشيءَ بالشيءِ: چیز کو
چیز کے ساتھ ملانا، جوڑنا۔ ۔۔۔ بین الشیئین: دو چیزوں
کو ایک دوسرے سے جوڑنا۔ اَلْحَمَ الشيءَ: کو
درست کرنا۔ ۔۔۔ الثوبَ: کپڑا بننا۔ اَلْحِم ما
أَسْدَیْتَ: جسے تو نے شروع کیا ہے اسے مکمل کر۔
۔۔۔ الشعرَ: شعر نظم کرنا ۔۔۔ فلانًا الخطبَ: سے
معاملہ کا لگا رہنا، چمٹنا ۔۔۔ ہٗ بصرہٗ: کو تیز نظری سے
دیکھنا ۔۔۔ الرجلَ: کو غمگین کرنا ۔۔۔ الشيءَ
بالشيءِ: چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا ۔۔۔ فلانًا
الارضَ: کو زمین پر گرادینا، پچھاڑ دینا۔ ۔۔۔
بالمکان: کسی جگہ اقامت گزیں ہونا ۔۔۔ ت الدابّةُ:
جانور کا چلتے چلتے رک جانا ۔۔۔ ہٗ القتالُ: لڑائی سے
چھٹکارا نہ پانا۔ تلاحَمَ الشيءُ: جڑ جانا ۔۔۔
القومُ: آپس میں قتال کرنا۔ ۔۔۔ تِ الشجّةُ: زخم پر
انگور آنا۔ اِلْتَحَمَ الشيءُ: جڑ جانا ۔۔۔ تِ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الحربُ بینهم: کے درمیان گھمسان کی جنگ ہونا۔
ــــ الجرحُ للبرء: زخم کا انگور لانا۔ اِستَلحَمَ
الزرعُ: کھیتی کا گنجان ہونا۔ ــــ الخطبُ فلانًا: کو
معاملہ کا مشغول کرنا۔ اُستُلحِمَ الرجلُ: لڑائی
میں پھنس جانا، چھٹکارا نہ پانا۔ اللُحمَۃ جمع لُحَم
قرابت، کپڑے کا بانا۔ لُحمۃُ الثوب: کپڑے کا
بانا۔ اللِحَام: دراڑ کو جوڑنے والی چیز۔ المُلحَم:
قوم سے جڑا ہوا، قیدی، ایک قسم کا کپڑا جس کا تانا سفید
ابریشم کا ہوتا ہے اور بانا ریشم کا نہیں ہوتا۔ المَلحَمَۃ
جمع مَلاحِم: گھمسان کی جنگ کا موقعہ، قتل عام،
خون ریز جنگ، رزمیہ شاعری سے کنایہ، جیسے ہومر کی
مشہور رزمیہ نظم (Iliad)۔ المُلاحَم من الحبال:
مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ کہا جاتا ہے: شَجَّۃٌ مُتلاحِمَۃٌ:
بھرا ہوا زخم۔
۲۔ لَحَمَ ـَلَحمًا القصّابُ العظمَ: قصائی کا ہڈی
سے گوشت اتارنا۔ ـــ ہٗ: کو گوشت کھلانا، کو نقصان
پہنچانا، کو تکلیف دینا۔ لَحِمَ ـَلَحمًا الصقرُ و
نحوہٗ: شکرہ، شاہین، باز وغیرہ کا گوشت کی خواہش
رکھنا..... لَحُمَ ـُلَحمًا و لُحُم ـلَحامَۃً: بہت گوشت
والا جسم رکھنا، لحیم ہونا، گوشت کا بہت خواہش مند ہونا۔
لُحِمَ لَحمًا: قتل کیا جانا صفت لَحِیم: اَلحَمَ
الرجلُ: کے گھر میں بہت گوشت ہونا۔ ـــ القومَ:
کو گوشت کھلانا۔ ــ الزرعُ: کھیتی میں دانہ پڑنا۔ ــ ہٗ
عِرضَ فلانٍ: کو گالی دینے کا موقعہ دینا۔ ـــ بین
القومِ شرًّا: قوم کے درمیان فساد ڈلوانا۔ اُلحِمَ
الرجلُ: مرنا۔ اللاحِم: گوشت کھلانے والا،
گوشت رکھنے والا۔ بازٌ لاحِمٌ: گوشت کھانے یا اس
کی خواہش رکھنے والا باز۔ اللَحم واللَحَم جمع
لِحَام و لُحوم و لِحمان و لُحمان و اَلحُم من
جسمِ الحیوان: گوشت۔ کہا جاتا ہے: اَکَلَ
لَحمِی: ورَتَع فی لحمی: اس نے میری غیبت
کی۔ لَحمُ کلِّ شیءٍ: ہر چیز کا گودا۔ لَحمُ
البحرِ (ح): کیڑا۔ اللَحِم: جسم میں بہت
گوشت والا، گوشت کی بہت اشتہا رکھنے والا۔ (ح):
شیر۔ بازٌ لَحِمٌ: گوشت خور یا گوشت کی اشتہاء
رکھنے والا باز۔ اللُحمۃ جمع لُحَم: شکار میں
سے باز کا حصہ۔ اللَحمۃ: گوشت کا ٹکڑا۔ اللَحَّام:
گوشت بیچنے والا۔ اللَحِیم: جسم میں بہت گوشت
والا، مقتول۔ کہا جاتا ہے: ھذا لَحِیمُ ذاک: یہ اس
کے مطابق ہے۔ المُلحِم (فا): گوشت کھلانے
والا، بہت گوشت رکھنے والا۔ المُلحَم (مفع):
جسے گوشت کھلایا جاتا ہو۔ المَلحَمَۃ جمع مَلاحِم:
بوچڑخانہ، مذبح۔ المُستَلحِم (ح): شیر۔
۳۔ اِستَلحَمَ الطریقُ: راستہ کا کشادہ ہونا۔ ـــ الطریقَ
او الطریدۃَ: راستہ پر چلنا، شکار کا پیچھا کرنا۔
○ لَحَمَ ـَلَحمًا ہٗ: کی مرمت کرنا، کو پیوند لگانا، ویلڈ
کرنا، ٹانکا لگانا۔ لَحِمَ: پھنس جانا۔ لَحَّمَ ہٗ:
کو ٹانکا لگانا۔ تَلاحَمَ: لڑائی میں شامل ہونا، باہمی
قتال میں مشغول ہونا، متحد رہنا، ایک دوسرے کی تائید
کرنا، متحد یا مربوط رہنا، متحد ہونا۔ اِلتَحَمَ بـ: سے
وابستہ رہنا، پر جما رہنا، کے ساتھ فوری رابطہ میں ہونا،
کے ساتھ لگا رہنا، کے ساتھ بالکل ٹھیک ہونا۔
اِلتَحَمَ: دو بدو لڑنا (جنگ وغیرہ میں)، متحد رہنا، متحد
ہونا، مربوط ہونا، (زخم کا) بند ہونا، بھر جانا، مندمل
ہونا۔ بِلَحمِہ و شَحمِہ: اپنی حقیقی انسانی شکل
میں۔ لَحمًا و دَمًا: قدیم دیرینہ، پورا پکا، کٹر بانا،
مزمن۔ لَحمۃ و لُحمۃ جمع لُحَم: فیصلہ کن
عنصر، اصل مقصود یا مدعا۔ لِحام جمع لحامات: ٹانکا
لگانا، ویلڈنگ، ٹانکا، ٹانکا لگا جوڑ یا شگاف..... لَحَّام:
قصائی، ٹانکا لگانے والا، ویلڈر (welder)۔
لَحامَۃ: فربہی۔ لَحِیم: موٹا، فربہ۔ اِلتحام:
قریبی اتحاد، اتصال، چسپیدگی، جوڑ، میل، ساتھ،
تعلق، رابطہ، پیوند، رشتہ، پیوستگی، ربط، وابستگی، مڈبھیڑ،
ہاتھا پائی، گتھم گتھا ہونا، گھمسان کی لڑائی، جدو جہد
جنگ، لڑائی، محاربہ، مجادلہ۔ مُلتَحِمۃ: جڑا ہوا
لحن: ۱۔ لَحَنَ ـَلَحنًا و لَحَنًا و لُحُونًا و لَحانۃً و
لَحانِیَۃً فی کلامہ او فی القراءۃ: اعراب میں
غلطی کرنا صفت لاحِن و لحّان و لَحّانۃ۔ ـ لَحنًا
لِفلانٍ: کسی سے کنایہ میں بات کرنا کہ دوسرا نہ سمجھ
سکے۔ صفت لاحِن: اس معنی میں اسے لحان نہیں کہا
جائے گا...... الیہ: کی طرف مائل ہونا، کے پاس
جانا۔ لَحَّنَہٗ: کو غلطی کرنے کا الزام دینا۔ ــ فی
القراءۃ: قرأت میں ترنم کرنا، سر سے پڑھنا۔ ـــ
الأناشِیدَ (مو): گیتوں کے سر بنانا۔ اللَحن
(مص) فی الکلام جمع اَلحان و لُحون:
اعراب اور ساخت میں غلطی جیسے منصوب کا رفع اور
مضموم کا فتحہ...... من الاصوات: آواز، سر، لہجہ،
طرز تکلم۔ صناعۃُ الالحان: موسیقی۔ لحن
الکلام: الفاظ کا معنی و کنایہ۔ اللَحَن: زبان،
لغت۔ اللُحَنۃ: وہ جس کی لوگ غلطیاں پکڑیں۔
اللُحَنَۃ: بہت غلط تلفظ کرنے والا، لوگوں کی غلطی
بہت پکڑنے والا۔ الألحَن: سریلی آواز سے گانے
یا پڑھنے والا۔ المُلَحِّن: نغمہ ساز، نغمہ گر۔
۲۔ لَحِنَ ـَلَحنًا قولَہٗ: کی بات سمجھنا۔ لَحِنَ ـ لَحَنًا
الرجلُ: دانا و ذہین ہونا، دلیل جان لینا۔ ــ الکلامَ:
کلام سمجھنا۔ لاحَنَ القومَ: پر کوئی چیز دہرانا۔ اَلحَنَ
فلانًا القولَ فلَحِنَہٗ: کو بات سمجھانا اور اس کا اسے سمجھ
لینا۔ اللاحِن (فا): نتائج کلام کو جاننے والا۔ اللَحَن:
ذہانت۔ اللَحِن: ذہین۔ الاَلحَن: زیادہ سمجھدار
○ لَحَنَ ـَلَحنًا و لُحونًا و لَحانَۃً: قواعد کے خلاف
عربی بولنا (جس میں سوقیانہ الفاظ استعمال کئے گئے
ہوں)۔ لَحِنَ ـَلَحنًا: ذہین ہونا، سمجھدار ہونا۔
لَحَّنَ: گانا، گنگنانا، نغمہ سرا ہونا، لحن سے پڑھنا، گا کر
ادا کرنا، نغمہ نکالنا، گانے لگنا، راگ بنانا، نغمہ گری کرنا۔
لَحن جمع اَلحان و لُحون: لے، دھن، طرز، سر،
قواعد (زبان) کی غلطی، محاورے کی غلطی سوقیانہ لفظ یا
محاورہ۔ لَحِن: ذہین، سمجھدار، عقلمند، زیرک،
ہوشمند۔ تَلحین جمع تلاحِین: نغمہ نگاری، نغمہ
گری، موسیقی کی ترتیب۔ مَلحُون: غلط، قواعد
صرف و نحو کے خلاف (زبان): عام بول چال میں
شاعری۔ مُلَحِّن: نغمہ ساز، نغمہ گر۔ تَلحِینی:
گانے کے قابل۔
لحو: ۱۔ لَحا یَلحُو لَحوًا الشجرۃَ: درخت کا چھلکا
اُتارنا۔ ـ ہٗ: کو گالی دینا۔ اِلتَحَی اِلتِحاءً الشجرۃَ:
درخت کا چھلکا اُتارنا۔ المِلحَی: لکڑی چھیلنے کا اوزار۔
۲۔ لَحوَجَ لَحوَجَۃً علیہ الخبرَ: پر خبر کو خلط ملط کرنا،
اور ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔
○ لَحَا ـَلَحوًا و لَحَی ـ لَحیًا: کی بے عزتی کرنا،
توہین کرنا، تنگ کرنا، اہانت کرنا، کو ذلیل کرنا، کو گالی
دینا۔ تَلاحَی: ایک دوسرے پر گالیوں اور دشنام
طرازیوں کا انبار لگانا، ایک دوسرے کو گالی دینا۔
اِلتَحی: داڑھی رکھنا۔ لَحو و لَحی: بے عزتی،
توہین، تنگ، اہانت، تذلیل، گالی، گالی گلوچ، گالیوں
کی بوچھاڑ، سب و شتم۔ لَحی: دہرا۔ لَحیان جمع
الحِ و لُحِیّ: جبڑے کی ہڈی۔ لِحیَۃ جمع لحًی و
لُحًی: داڑھی، گل مچھے، پوری داڑھی۔ اَطلَقَ
لِحیَتَہٗ: داڑھی رکھنا۔ لَحیَۃ: (بحر قلزم پر، شمالی
مغربی یمن کا ایک) شہر۔ اَلحَی: لمبی داڑھی والا۔
مُلتَحٍ: داڑھی والا۔ مُلتَحٍ بِلِحیَۃٍ سوداء: کالی
داڑھی والا۔
لحی: لَحَی یَلحَی لَحیًا الشجرۃَ: درخت کا چھلکا
اتارنا، درخت کو چھیلنا...... فُلانًا: کو ملامت کرنا،
گالی دینا، پر عیب لگانا۔ صفت فاعلی: لاحٍ صفت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مفعولی: مَلْحِیّ۔ کہاجاتا ہے لحا اللّٰہُ فلانًا: اللہ تعالیٰ فلاں پر لعنت کرے۔ لَاحَی لِحَاءً و مُلَاحَاۃً الرجلَ: سے جھگڑنا، ضرب المثل میں لاحاک فقد عاداک: جو تجھ سے جھگڑے وہ تجھے دشمن سمجھتا ہے۔۔۔ فلانًا: کو دور کرنا منع کرنا، ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ اَلْحَی اِلحَاءً: قابل ملامت کام کرنا۔۔۔ العودُ: لکڑی کا چھلکا اتارنے کا وقت آنا۔ تَلَاحَی تَلَاحِیًا القوم: ایک دوسرے کو گالی دینا، آپس میں جھگڑنا لعنت ملامت کرنا، آپس میں بغض وحسد رکھنا۔ اِلتحی التحاءً العُودَ: لکڑی چھیلنا۔ اللحاء (مص): لکڑی یا درخت کی چھال۔ ضرب المثل ہے: لاتَدْخُلْ بینَ العَصَا و لِحائِها: یعنی تو ایک گھر والوں یا جن سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے درمیان دخل نہ دے۔ اللِّحْیَان: تھوڑا پانی۔ – واحد لِحْیَانۃ: سیلاب کے بنائے ہوئے گڑھے۔

۲۔ تَلَحَّی تَلَحِّیًا: پگڑی کو ٹھوڑی کے نیچے لپیٹنا۔ اِلْتَحَی اِلتِحَاءً: کی داڑھی اگنا، داڑھی رکھنا۔ اَللَّحْی جمع اَلْحٍ و لُحِیٌّ: جبڑا۔ ڈاڑھی نکلنے کی جگہ اور یہ لَحیانٌ ہیں۔ لَحْیَا الغدیر: تالاب کے دونوں کنارے۔ لَحْیَانَ سے تشبیہ کے طور پر جو منہ کے دونوں جانبوں کو کہتے ہیں۔ اللِّحْیَۃ جمع لِحًی و لُحًی (نسبت کی صورت میں) لِحْوِی: داڑھی۔ لِحْیَۃُ التَّیس (ن): ایک پودا۔ لِحْیَۃ الحمار (ن): ایک پودا۔ اللِّحْیَانُ م لِحْیانَۃ: لمبی داڑھی والا۔ الاَلْحَی او اللِّحْیَانی: لمبی یا بڑی داڑھی والا۔

لخ: ۱۔ لَخَّ ـَـ لَخًّا و لَخِخَتْ عَیْنُہُ: آنکھ کا زیادہ آنسوؤں اور موٹی پلکوں والا ہونا صفت لَخِخَۃ۔ ۔ فی الکلامِ: غیر واضح گفتگو کرنا۔۔۔ فی الحضر: کھودنے میں جھکنا لَخِخَ ـَـ لَخَخَات عینُہُ: آنکھ کا زیادہ آنسوؤں والی اور موٹی پلکوں والی ہونا۔ صفت لَخِخَۃ۔ تَلَاخَ الوادی: وادی کا تنگ اور درختوں سے بھری ہونا۔ اِلْتَخَّ الامرُ: کام کا پیچیدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے اِلتخ علیہم الامر: ان کے لئے معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ العشبُ: گھاس کا گنجان اور گھنا ہونا۔ وادٍ لاخٍ: بہت تنگ اور گنجان درختوں والی وادی۔ اللخۃ (ع ا): ناک۔ اصل لَخوخ: معیوب۔ اصل۔ وادٍ مُلْتَخٌّ: بہت گنجان درختوں والی وادی۔ سکرانٌ مُلْتَخٌّ: مخبوط الحواس شرابی۔

۲۔ لَخَّ ـَـ لَخًّا الخبرَ: پوری خبر معلوم کرنا۔ لخ فی الجبل: پہاڑ کے کنارے کنارے جانا۔

۳۔ لَخَّ ـُـ لَخًّا ہُ: کو تھپڑ مارنا۔۔۔۔ ہُ بالطیب: کو خوشبو لگانا۔ امرأۃ لَخَّۃ: بدبودار گندی عورت۔

۴۔ اللَّخْلَخَانِیَّۃ: ناقص اظہار۔

○ لَخْلَخَ ہ: کو زور زور سے ہلانا، الگ کر دینا، جھٹک دینا۔ تَلَخْلَخَ: ڈگمگانا، کانپنا، ہلنا، تھرانا، لڑکھڑانا۔ مُلَخْلَخ: لرزاں، متزلزل، لڑکھڑانے والا، زوال پذیر۔

لخب: لَخَبَ ـَـ لَخْبًا و لَاخَبَ مُلَاخَبَۃً ہُ: کو تھپڑ مارنا۔ اللَّخَب واحد لَخَبَۃ (ن): درخت کو گل۔ المُلَخَّب: جھگڑوں میں جسے خوب تھپڑ مارے گئے ہوں۔

لخص: لَخِصَ ـَـ لَخَصًا: کے اوپر والے پوٹے کا گوشت دار ہونا۔۔۔ ت عینُہ: متورم آنکھ والا ہونا۔ ایسے شخص کی صفت اَلْخَص: ایسی آنکھ کی صفت لَخْصاء جمع لُخْص۔ لَخَّصَ الکلام: کلام کو مختصر کرنا، بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے: لَخِّصْ لِی خبرَکَ: مجھ سے اپنی خبر تھوڑا کر کے بیان کر۔۔۔ الشیءَ: کا نچوڑ، خلاصہ یا لب لباب نکالنا۔ اللَّخَص (مص): آنکھ کے پپوٹوں کی پیدائشی موٹائی۔ ضرع لَخِصٌ: بہت گوشت والا تھن جس سے دودھ بمشکل نکلے۔ رجلٌ لَخِصٌ: وہ مرد جس کا بالائی پپوٹا موٹا ہو۔ جفنٌ لَخِصٌ: گوشت دار یا سوجا ہوا پپوٹا۔ اللَّخَصۃ جمع لِخاص: آنکھ کے اندر کا گوشت۔ الاَلْخَص: زیادہ واضح۔ المُلَخَّص (مفع): کہا جاتا ہے: ھذا مُلَخَّصُ ماقالوہ: یہ ان کے قول کا خلاصہ ہے۔

○ لَخَّصَ ہ: کو مختصر کرنا، کا خلاصہ کرنا، کا لب لباب بیان، کا اختصار کرنا، کو مختصر بنا دینا، کی تخفیف کرنا، کا انتخاب کرنا، اقتباس کرنا، کا خلاصہ بنانا، کی روح دینا، کا خاکہ بنانا، کو مختصر طور پر بیان کرنا۔ یُلَخَّصُ فی اَنْ: اس کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ۔۔۔۔ تَلَخَّصَ فی: کا میں خلاصہ ہونا، کا میں اختصار ہونا، کی میں تخفیف ہونا، مختصراً معنی یا مطلب یہ ہونا کہ، گویا کہ، کا کی روح ہونا، کی تخفیف ہونا۔ تَلْخِیص: خلاصہ، ملخص، اختصار، لب لباب، جوہر، روح، پورا خاکہ، مختصر بیان، مختصر رپورٹ۔ مُلَخَّص: مختصر کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا، تخفیف کیا ہوا جمع مُلَخَّصات: نچوڑ، اقتباس، خلاصہ، انتخاب، روح، جوہر، لب لباب، مطلب

لخف: لَخَفَ ـَـ لَخْفًا ہُ: کو سخت مارنا۔ اللَّخْف (مص): پتلا جھاگ۔ اللِّخاف واحد لَخْفۃ: سفید باریک

لخم: لَخَمَ ـَـ لَخْمًا ہُ: کو تھپڑ مارنا۔۔۔ الشیءَ: کو کاٹنا۔ الرجلُ: پر گوشت چہرے والا ہونا۔ لَاخَمَ لِخامًا و مُلَاخَمَۃً ہ: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، طمانچے مارنا۔ اللَّخْمَۃ: سستی، افسردہ دلی۔ رجل لُخْمَۃ و لَخْمَۃ: سست، ڈھیلا، ناکارہ، کاہل، کمینہ، تنگ دل، خسیس، کنجوس، بخیل۔

○ لَخْمۃ و لُخْمۃ: سست، اناڑی، بھدا، ناکارہ، بے ڈھنگا۔

لخن: لَخِنَ ـَـ لَخَنًا: بدبودار ہونا۔ الرجلُ: فتیح باتیں کرنا، گندہ بغل ہونا صفت اَلْخَن م لَخْناء جمع لُخْن۔ لَخَّنَ ہُ: کو یاابنَ الخناء کہنا۔ (اے گندہ بغل عورت کے بیٹے) کہنا۔

لخو: لَخَا یَلْخُو لَخْوًا ہُ: کو ناک کے راستہ سے کوئی دوا چڑھانا۔

لخی: ۱۔ لَخِیَ یَلْخَی لَخًی: بہت بکواس کرنا۔ لَخَی یَلْخِی لَخْیًا و اَلْخَی ہُ: کو ناک کے ذریعے دوا چڑھانا، کو دوا نگلوانا، کو مال دینا۔ لَاخَی لِخَاءً و مُلَاخَاۃً الرجلَ: سے دوستی کرنا، کا حلیف ہونا، سے تعاون کرنا۔۔۔ فُلَانًا علی فلان: کسی کو کسی کے خلاف اکسانا۔ بہ: کی غیبت کرنا، چغلی کھانا۔ اللخا او اللَّخَی و اللِّخَاء و المِلْخَی: جس سے ناک میں دوائی چڑھائی جائے۔ الاَلْخَی: بکواسی، بیہودہ گو۔۔۔ و اللَّخْیٰ من الجمال: اونٹ جس کا ایک گھٹنا دوسرے سے بڑا ہو۔ اللَّخْواء: الاَلْخَی کا مؤنث: عقاب جس کی چونچ کا اوپر کا حصہ نچلے حصہ سے لمبا ہو۔

۲۔ اِلْتَخَی اِلْتِخَاءً الصبیُّ: بچہ کا ترکی ہوئی روٹی کھانا۔ اسم اللِّخَاء ہے۔

لد: اِلَدَّ ـُـ لَدًّا الرجلَ: سے سخت جھگڑا کرنا، سے جھگڑے میں غلبہ حاصل کرنا۔۔۔ ہُ عن الشیءِ: کو سے منع کرنا۔ لَدًّا و لُدُودًا اللَّدُودَ: لدود دوا تیار کرنا۔۔۔ فُلانًا اللَّدُودَ: کو لدود دوائی منہ کے گوشے سے پلانا۔ لَادٌّ: منہ کے گوشے سے دوائی پلانے والا۔ مَلْدُود: جس کو منہ کے گوشے سے دوائی پلائی جائے۔۔۔ لَدَدًا: سخت دشمن یا جھگڑالو ہونا صفت اَلَدّ۔ کہا جاتا ہے ھُوَ اَلَدُّ بَیِّنُ اللَّدَد: وہ سخت جھگڑالو ہے۔ لَدَّدَ بہ: کو بدنام کرنا۔ لَادَّ لِدَادًا و مُلَادَّۃً الرجلَ: سے سخت جھگڑا کرنا، سے جھگڑے میں غلبہ حاصل کرنا۔ عنہ: کی مدافعت کرنا۔ اَلَدَّ الرجلَ: کو لدود دوائی پلانا، سے سخت جھگڑا کرنا، سے جھگڑے میں غلبہ حاصل کرنا۔ ہُ: کو سخت جھگڑالو پانا۔ بہ: کو

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ٹالنا۔کہاجاتا ہے: الْدَدْتُ بہ: میں نے دشمنی میں اس کوعاجز کردیا۔ تَلَدَّدَ: دائیں بائیں دیکھنا۔اِلْتَدَّ: الدوددواءنگلنا۔۔ عن الشیء: سے ایک طرف کوہو جانا۔اَلَآدُّ و اللَدُّ جمع اَلِدَّة و الاَلَدّ م لدّاء جمع لِدا سخت جھگڑالو۔ اللَدَدْ (مص): سخت جھگڑا۔ اللدود جمع اَلِدَّة: سخت جھگڑالو۔منہ کے گوشے سے پلانے کی یا کھلانے کی ایک دواء۔ اللَدِید جمع اَلِدَّة: سخت جھگڑالو، منہ کے ایک گوشے سے دی جانی والی ایک دواء۔ اللدِیْدَاد: گردن کے دو پہلو (کانوں کے نیچے)۔ وادی کے دو پہلو، ہر چیز کے دو پہلو۔ الاَلَنْدَدُ و الیَلَنْدَد: سخت جھگڑالو۔ المُتَلَدَّد (ع) گردن۔کہاجاتا ہے: مالہ عنہ مُحْتَدٌّ و لا مُلْتَدّ: اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

۲۔لَدَدَہٗ کوحیران کرنا۔ تَلَدَّد: حیران ہونا۔۔۔۔ فی المکان: کسی جگہ ٹھہرنا۔

۳۔ لَدَدٌ (مص): بورا، تھیلا۔

لَدَّبَ: کو بدنام کرنا، کی بے عزتی کرنا، پرتہمت لگانا۔ لَدَّدَ: پریشان کرنا، حواس باختہ کرنا، الجھانا، ہوش گم کرنا، حیرت میں ڈالنا۔ تَلَدَّد: بےبسی سے دائیں بائیں رخ بدلنا، پریشان ہوجانا، حیرت زدہ ہونا، منہ زور ہونا، سرکش ہونا، خودرائے ہونا، ضدی ہونا، اڑنا، ضدکرنا۔ لَدَد: سخت جھگڑا۔ لَدُود و اَلَدّم لَدّاء جمع لُدّ و لِداد و اَلِدّاء: سخت، تیزتند، خونخوار، ہیبت ناک، مہیب، سنگدل، سنگ طبع، ضدی۔ عَدُوّ اَلَدّ: شدید دشمن، پکا دشمن، بڑا دشمن۔ عدو لَدُود: شدید دشمن، پکا دشمن، بڑا دشمن۔ مُتَلَدِّد: ضدی، ہٹ دھرم، سرکش، باغی، اڑیل۔

لدس: ا۔لَدَسَ ۔لَدْساً ہٗ بیدہ: کو ہاتھ سے مارنا۔۔۔۔۔ ہٗ بحجر: کو پتھر مارنا۔ المِلْدَس جمع مَلادِس: گٹھلی توڑنے کا بڑا پتھر۔

۲۔لدس ۔لَدْساً الشیءَ: کو چاٹنا۔ لَدَّسَ الخفَّ: موزے میں پیوند لگانا، موزے کی مرمت کرنا۔ اَلْدَسَتِ الارضُ: زمین کا کچھ سبزہ اُگانا، روئیدگی نکالنا۔ اللَدِیْس جمع اُلْدَاس: موٹا۔

۳۔ اللِدْس: سست ونرم۔

لدغ: لَدَغَ ۔لَدْغاً و تَلْدَاغاً ہٗ: کو ڈسنا۔کہاجاتا ہے: لَدَغَہٗ بکلمة: اس نے اُسے لفظوں سے تکلیف دی، بدنام کیا۔ اَلْدَغ العقربَ فُلانا: کو ڈسنے کیلئے اس پر بچھو چھوڑنا۔ اللَادِغ م لادِغة جمع لُدَّغ (فا): ڈسنے والا۔ اللَدْغَة: ایک بار ڈسنا۔ اللُدَّاغ: کانٹا یا اس کی تیزنوک۔ اللُدَّاغَة من الرجال: طعن و تشنیع کرنے والا۔ اللَدِیغ جمع لَدْغَی و لُدَغاء (مذکر ومونث کیلئے)، ڈسا ہوا۔کہاجاتا ہے: هم قومٌ لُدْغَی وَلُدَغاء: وہ لوگوں کو طعن وتشنیع کرنے والے ہیں۔ المِلْدَغ: گفتگو سے ڈسنے والا، طعن وتشنیع کرنیوالا۔

لَدَّغَ ہٗ: سانپ وغیرہ کا، کو ڈسنا۔۔۔۔ ہٗ: کو طعنہ دینا، ملامت کرنا، کو ٹھیس پہنچانا، کو دل گیر کرنا۔

لدك: لَدِکَ ۔لَدَکاً و لَدَکاً بہ: سے چپکنا۔

لدم: لَدَمَ ۔لَدْماً ہٗ: کو تھپڑ مارنا، کو کسی بھاری چیز سے مارنا جس کے لگنے کی آواز آئے۔۔۔۔۔ الخبزَ من المَلَّةِ: روٹی کو بھوبھل سے نکالنا۔ لَدَّمَ الثوبَ: کپڑے کو پیوند لگانا، درست کرنا۔ اُلْدِمَتْ علیہ الحُمّیَ: کو بخار رہنا۔ تَلَدَّمَ الثوبُ: بوسیدہ ہونا، پیوند لگانے کے قابل ہونا۔۔۔ الثوبَ: کپڑے کو پیوند لگانا۔ اِلْتَدَمَ: مضطرب ہونا، پریشان ہونا۔۔۔۔ ہٗ: کو مارنا، دھکا دینا۔۔۔۔ تِ النساءُ: عورتوں کا ماتم، میں منہ پر طمانچے مارنا۔ اللَادِم جمع لَدَم (فا)۔ اللَدْم (مص): پتھر کی زمین پر گرنے کی آواز۔ اللَدَم: عزت دار رشتہ۔ اللِدَام: پیوند۔ اللدَّام: پیوند لگانے والا، رفوگر۔ اللَدِیم من الثیاب: بوسیدہ پیوند لگا کپڑا۔ المِلْدَام: پتھر جس سے گٹھلی توڑی جاتی ہے۔ المِلْدَم: بمعنی المِلْدَام: بیوقوف، پرگوشت، بھاری۔ امّ مِلْدَم: بخار۔

لدن: ا۔لَدُنَ ۔لَدَانَةً و لُدُونَةً: نرم ہونا صفت لَدْنٌ م لَدْنَة جمع لُدْن و لِدانٌ۔۔۔ ت اخلاقُہ: نرم خو ہونا، پسندیدہ اخلاق والا ہونا۔ لَدَّنَ الشیءَ: کو نرم کرنا۔۔۔ ثوبَہٗ: کپڑا تر کرنا، بھگونا۔کہاجاتا ہے: هو لَدْنُ الخَلِیقة: وہ نرم طبیعت ہے۔

۲۔لَدَّنَ ہٗ فی الامر: کو کھٹائی میں ڈالنا۔ تَلَدَّنَ: کاہلی کرنا۔۔ بالمکان: کسی جگہ میں رہنا۔۔ علیہ: سے معذرت چاہنا۔کہاجاتا ہے: تَلَدَّنت علّی راحِلتی: میری سواری نہیں چلی۔

۳۔ اللَدُن من الطعام: وہ کھانا جو اچھی طرح نہ پکایا گیا ہو، خراب پکا ہوا کھانا۔ لَدُن و لَدَنْ و لُدْن و لَدِن و لَدْن و لَدُن: ظرف زمان ومکان۔عِند کے معنی میں، پاس، موجودگی میں۔ظرف مکان کے طور پر زیادہ قریب اور خاص ہے۔ظرف حاضر میں استعمال ہوتا ہے۔کہاجاتا ہے: لَدُنْہُ مالٌ: اس کے پاس مال ہے۔مبنی ہے من سے مجرور کہنا بھی جائز ہے۔کہاجاتا ہے: جِئْتُ من لدنہ: میں اس کے پاس سے آیا۔ ظرف زمان سے قبل واقع ہو تو ظرف کو اضافت سے مجرور بنانا جائز ہے۔جیسے لَدُن غُدْوَةٍ (صبح کو) تمیز کے طور پر نصب آتا ہے۔جیسے: لَدُن غُدوَةً۔ کہا جاتا ہے: لی الیہ لُدُنَةٌ: مجھے اس سے حاجت ہے۔

لَدُنَ ۔لَدانَةً و لُدُونَةً: نرم ہونا، ملائم ہونا، لچکدار ہونا، لوچ دار ہونا، سکڑنے پھیلنے والا ہونا۔ لَدَّنَ ہٗ: کو نرم کرنا، ملائم کرنا، پتلا کرنا، اعتدال پر لانا، ڈھیلا کرنا، ہلکا کرنا، کم کرنا۔ لَدَن جمع لُدُن و لِدان: نرم، سلیم الطبع، لچکدار، اثر پذیر۔ ملائم، سکڑنے پھیلنے والا (elastic)، لوچدار، ڈھلنے والا، ڈھلنے کے قابل۔ لاَدَن و لادِن: افیون کا ست، افیون کا آمیزہ۔الکحل اور افیون کا محلول۔ لَدانَہ و لُدُونَة: نرمی، ملائمت، لوچ، لچک، جھکنے کی صلاحیت، ڈھل جانے کی صلاحیت، صورت پذیری۔ لَدائِن: پلاسٹک۔ لَدُن: پر، پاس، قریب، سامنے، قریب، کے قریب، کی موجودگی میں، کے سامنے، کے آگے، ساتھ، کے پاس۔مِن لَدُن: سے، کی طرف سے، سے، جب سے، تب سے۔ لدن ان: یہی معنی۔ لَدُنی: باطنی، صوفیائی، پرجلال۔ العلم اللدُنی اور العلوم اللدنیة (تصوف میں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست بذریعہ باطنی وجدان عطا کردہ معرفت۔

لدی: اَلْدَی اِلْداءً: زیادہ ہم عمروں والا ہونا۔ اللِدَة جمع لِدَات و لِدُون: ہم عمر، ہم تربیت۔ (کہاجاتا ہے: هو لِدَتی: وہ میرا ہم عمر ہے) وقتِ ولادت۔ لَدَی: ظرف مکان بمعنی لَدُن۔ اضافت کے ساتھ آتا ہے۔ لُدُن کی طرح اسے مِن سے مجرور بنانا جائز نہیں۔آپ کہتے ہیں: لَدَیَّ مالٌ: میرے پاس مال ہے۔

لدی: پر، پاس، قریب، کی موجودگی میں، کے سامنے، پہلے، ساتھ۔ لَدَی الحاجة: ضرورت کی صورت یا حالت میں، اگر ضروری ہوا۔ لَدَیْہِ: اس کے پاس ہے۔ ما لَدَیْكَ: حالت جس میں آپ ہیں، تمہاری ذہنی حالت۔ لیس لَدَینا ...... غیر ما: ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے کہ......

لَذّ: ا۔لَذَّ ۔لَذَاذاً و لذاذةً الشیءُ: لذیذ ہونا، خوش مزہ ہونا، مرغوب ہونا، مزے دار ہونا صفت لَذٌّ و لَذِیذٌ۔ لَذَّا و تَلَذَّذَ و اِلْتَذَّ الشیءَ و بہ: کو لذیذ پانا۔ لَذَّذَہٗ: کو خوش کرنا، محظوظ کرنا۔ تَلاذّاً: ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا۔ اِسْتَلَذَّ الشیءَ: کو لذیذ پانا۔ اللَذّ (مص): مزے دار، مرغوب، نیند۔کہاجاتا ہے: رجُلٌ لَذٌّ: شیریں کلام، میٹھی گفتگو کرنے والا۔ اللَذَّة جمع لَذَّات: مزا، خوشی، آرام، لذت، سرور، خوشنودی، شراب۔ الاَلَذّ: زیادہ لذیذ۔ المَلَذّ جمع مَلاذّ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لذت کی جگہ۔ المَلَذَّۃ جمع مَلَذّات: خواہش۔

۲۔ لَذَّ لَذَّ: چست و پھرتیلا ہونا۔ اللَّذْلاذ: چست و پھرتیلا، جلدی کرنے والا۔ (ح): بھیڑیا۔

ⓒ لَذَّ ۔لَذاذًا و لَذاذۃً: میٹھا ہونا، شیریں ہونا، لذیذ ہونا، خوش ذائقہ ہونا، خوشگوار ہونا، مزیدار ہونا، تسکین دہ ہونا۔ لَذَّ و اَلَذَّ ہٗ: کو خوش کرنا، محظوظ کرنا، کی خواہش پوری کرنا۔ تَلَذَّذَ و اِلْتَذَّ ب: سے خوش ہونا، مسرور ہونا، لطف اندوز ہونا، سے تسکین پانا۔ ہٗ: کو لذیذ پانا، خوشگوار پانا، سے مزہ اٹھانا۔ اِسْتَلَذَّ ہٗ: کو لذیذ یا خوشگوار پانا، کو مسرت بخش یا خوش آئند پانا، سے لطف اندوز ہونا۔ مَلَذَّۃ جمع مَلَذّات و مَلاذ: فرحت، خوشی، مسرت، شادمانی طرب، سرور، لذت، سہولت، آرام پہنچانے والی چیز، لطف، مزا، تفریح، عیش پسندی، عیاشی۔ مُتَلَذِّذ: خوش خوراک، لذیذ کھانوں اور شرابوں کا شوقین، عیش پسند، شہوت پرست۔

لذب: لَذَبَ ۔لُذُوبًا و لاذَبَ مُلاذَبَۃً بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔

لذج: لَذَجَ ۔لَذْجًا ہٗ: سے سوال میں اصرار کرنا...... الماءَ: پانی کا گھونٹ لینا۔

لذع: ۱۔ لَذَعَ ۔لَذْعًا ت النارُ الشیءَ: آگ کا چیز کو جلا ڈالنا۔ ۔ الحُبُّ قلبَہٗ: محبت کا دل کو تکلیف پہنچانا۔ ۔ فلانًا بلسانہ: کو گفتگو سے دکھ پہنچانا۔ ۔ البعیرَ: اونٹ کو داغنے کے لوہے سے داغنا ۔ الرجلُ بذکائہ: ذہانت سے جلد سمجھ لینا۔ تَلَذَّعَ: تیز فہم ہونا، ذہین ہونا، دائیں بائیں متوجہ ہونا جیسے کوئی بات اُسے پریشان کر رہی ہو۔ ۔ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ اِلْتَذَعَ: درد سے جلن ہونا۔ اللاذِعۃ جمع لَواذِع: لاذع کا مؤنث۔ لواذعُ الکلام: تکلیف دہ گفتگو۔ کہا جاتا ہے: نعوذ باللّٰہ من لواذعہ: ہم اس کی ایذادہ گفتگو سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللَّذّاع: لاذع کا اسم مبالغہ۔ کہتے ہیں: رجُل مَذّاع لَذّاع: وعدہ خلاف (کیونکہ ایسا آدمی اپنی زبان سے اچھا وعدہ کر کے وعدہ خلافی سے دکھ دیتا ہے)۔ اللَّذَع: جلن پیدا کرنے والی شراب (نبیذ)۔ اللَّوْذَع و اللَّوْذَعِیُّ: تیز فہم، فصیح اللسان، خوش بیان۔

لَذَعَ ۔لَذَعًا الطائرُ: پرندہ کا پھڑ پھڑا کر بازوؤں کو تھوڑا سا ہلانا۔

ⓒ لَذَعَ ۔لَذْعًا ہٗ: کو جلانا...... ہٗ: پر داغ لگانا، کلنک کا ٹیکہ لگانا، کو داغنا، کو باتوں سے دکھ پہنچانا، کی توہین کرنا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ تَلَذَّعَ: جلنا۔ لَذْع: جلنا، آگ، آتش، بھا بھڑ، آتش زدگی۔ لذع النبادق: رائفل فائر (rifle fire)۔ لَذّاع: جلتا ہوا، بہت گرم، جھلستا، تیز، چبھتا ہوا، درشت خو، سخت تکلیف دہ، طنز بھرا، دل خون کرنے والا۔ لَوْذَع و لَوْذَعی: زیرک، دانشمند، طباع، خوش تدبیر، ایجاد کا ماہر، اختراع پسند، بذلہ سنج، ذکی، زود فہم، حاضر جواب۔ لَوْذَعِیَّۃ: اپج، خوش تدبیری، ایجاد کا مادہ، اختراع، زیرکی، فراست، ہوشمندی، زود فہمی، ذکاوت، چوکسی، ہوشیاری۔ لاذع: تیز، چبھتا ہوا، سخت تکلیف دہ، طنز بھرا، دل خون کرنے والا۔ لاذِعَۃ جمع لَواذِع: طعنہ۔ اللاذِقِیَّۃ: لاتاکیہ (مغربی شام کی ایک بندرگاہ)۔

لذم: لَذِمَ ۔لَذَمًا ہُ الشیءُ: کو کوئی چیز اچھی لگنا، بھلی معلوم ہونا۔ ۔ بالشیءِ: کسی چیز پر شیفتہ ہونا، کسی چیز کا حریص ہونا۔ ۔ بالمکان: کسی جگہ ٹک کر رہنا۔ اَلْذَمَ ہُ الشیءَ و بہ: کو کا حریص بنانا، شیفتہ بنانا۔ ۔ بالمکان: کسی جگہ میں ثابت قدم ہونا۔ ۔ ہُ بفلانٍ: کو کسی سے وابستہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَلْذِم لِفلانٍ کَرامتَک: فلاں کے لئے اپنا احترام جاری رکھو۔ اُلْذِمَ بفلان: پر فریفتہ ہونا۔ رجُل لَذِم و لُذوم بالشیءِ: کسی چیز کا شوقین۔ اللُّذَمَۃ: کسی چیز کا عادی، گھر سے جدا نہ ہونے والا۔ المِلْذَم: بہادر، شجاع۔ رجُل مِلْذَم بالشیءِ: کسی چیز کا شوقین۔

لذن: اللاذَن (ن): ایک آبی پودا، پھول چوڑے گلابی یا سفید رنگ کے، بحر ابیض متوسط کے ساحلوں پر جھاڑی بنوں میں بکثرت پایا جاتا ہے...... واللاذنۃ: ایک قسم کی گوند۔

لذی: لَذِیَ یَلْذَی لَذًی بالامر: سے چمٹنا، کا شوقین ہونا۔ الذی: اسم موصول ہے۔ اس میں پانچ لغات ہیں: اللذِ و اللذْ و اللذیُّ و اللذِی و لَذِی۔ مؤنث اللّتی۔ تثنیہ اللذان و اللَّذا و اللَّذانّ جمع الّذِین و اللاوون و اللاؤُو۔ بعض حالت رفع میں اللذون اور نصب اور جر میں و الّذِین کہتے ہیں۔ تصغیر الذی کی اللذَیّا۔ تثنیہ اللذَیّان اور جمع اللذَیّون ہے۔ معنی: وہ شخص جو، وہ چیز جو، وہ (جو شخص)، وہ (جو چیز) جو۔

ⓒ بعدَ اللُّتَیّا و اللّتی: طویل بحثوں کے بعد، بعد از خرابی بسیار، خدا خدا کر کے۔

لزّ: لَزَّ ۔لَزًّا و لِزازًا الشیءَ بالشیءِ: چیز کو چیز سے باندھنا، ملانا، جوڑنا، لگانا، لازم کرنا...... الشیءُ بالشیءِ: سے چپکنا، لگا یا لپٹا رہنا۔ ۔ ہٗ الی کذا: کو پر مجبور کرنا ۔ ہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا ۔ القومُ: اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ لَزَّ اللّٰہُ فلانًا: اللہ کا فلاں شخص کو مضبوط اور گٹھے ہوئے جسم والا بنانا۔ لازَّ لِزازًا و مُلازَّۃً ہٗ: کے ساتھ رابطہ کر کے اُسے جھگڑے میں تنگ کرنا۔ اَلَزَّ الشیءَ: کو باندھنا، چمٹانا۔ اِلْتَزَّ بہ: سے چمٹنا، ملنا۔ اللَّزّ (مص): دروازہ کی کنڈی۔ اللِّزّ: ساتھی، وابستہ دامن۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لِزُّ شرٍّ و لَزِیزُ شرٍّ: فلاں ایسا شخص ہے جو شرارت سے باز نہیں آتا۔ اللزز و اللِّزاز (مصدر ہیں): دروازہ کی بلی، سخت جھگڑا۔ عیشٌ لَزَزٌ: تنگ زندگی، بدحالی۔ اللَّزِیزَۃ جمع لَزائِز: لزیز کا مؤنث۔ اللزائز: سینہ کی ہڈیاں۔ السِلْزَز: سخت جھگڑالو (مذکر و مؤنث کے لئے)۔ المِلزَہ (ا ع): چمڑے یا دھات کا گول ٹکڑا جس کے درمیانی حصہ میں چھید ہوتا ہے اور پائپ کے منہ کے نیچے باندھتے ہوئے رکھا جاتا ہے۔ اس کو رونڈل کہتے ہیں۔

ⓒ لَزَّ ۔لَزًّا و لِزازًا و لَزازًا ہٗ ب: کو سے باندھنا، کو سے مربوط کرنا یا سختی سے جوڑنا، کو سے متحد کرنا، کو سے چمٹانا۔ لَزَّزَ ہٗ: کو سختی سے جوڑنا، دبانا۔ لَزَز: لبالب یا کھچا کھچ بھرنا ۔ ہٗ الی: کو پر مجبور کرنا۔ تَلازَّ: باہم کھچا کھچ بھرا ہوا ہونا، ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تَلَزَّزَ و اِلْتَزَّ ب: سے متحد ہونا، جڑا ہونا، مربوط ہونا، سے چپکنا، لگا یا لپٹا رہنا، کے ساتھ پکا یا قائم رہنا۔ لِزّ و لِزاز: بلی، کھٹکا، چٹخنی، اڑواڑ، تختوں کو ملانے اور دبانے کا اوزار، مڑا ہوا تار یا سلاخ۔ مُلَزَّز: لبالب یا بھرا ہوا، کھچا کھچ بھرا ہوا، ساتھ ملا ہوا، مضبوط، ٹھوس، مضبوط، پختہ، چست۔

لزأ: لَزَأَ ۔لَزْءًا الاناءَ: برتن بھرنا۔ ۔ الماشیۃَ: مویشی کو سیر کرنا۔ ۔ فلانًا: کو دینا۔ کہا جاتا ہے: لَزَأَتْہٗ اُمُّہٗ: کو (ماں کا) جننا۔ لَزَّأَ و اَلْزَأَ الاناءَ و الماشیۃَ: برتن بھرنا، مویشی کو سیر کرنا۔ تَلَزَّأَ الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔

لزب: ۱۔ لَزَبَ ۔لُزُوبًا: مضبوطی سے قائم ہونا۔ ۔ بہ: سے چمٹنا۔ ۔ ت السنۃُ: قحط سالی ہونا۔ ۔ لَزَبات العقربُ فلانًا: بچھو کا کسی کو ڈسنا۔ لَزِبَ ۔لَزَبًا الطینُ: مٹی کا سخت اور چپکنے والی ہونا۔ لَزُبَ ۔لَزَبًا و لُزُوبًا الطینُ: مٹی کا سخت اور چپکنے والی ہونا۔ ۔ الشیءُ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ تَلازَبَ الشیءُ: تہہ بتہہ ہونا۔ اللازِب (فا): ثابت، کہا جاتا ہے: صارَ الامرُ ضربۃَ لازبٍ: کام ضروری اور ناگزیر ہو گیا۔ طِینٌ لازِبٌ: ہاتھ سے چپکنے والی مٹی۔ اللَّزِب: تنگ راستہ۔ اللَّزْبۃ جمع لِزَب و لَزَبات: شدت، سختی، قحط۔ سَنۃٌ لَزْبۃ: سخت سال، قحط کا سال۔ المِلزاب جمع مَلازیب: انتہائی کنجوس، بڑا بخیل۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ اللَزَب جمع لِزاب: تھوڑا۔ کہا جاتا ہے: هو عَزَبٌ لَزَبٌ: وہ کنوارا ہے۔ اللِزاب (ن): ایک قسم کا بڑا درخت۔ اس سے بہت عمدہ لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ لبنان کے اونچے علاقوں اور جبل الشیخ میں اُگتا ہے۔

○ لَزَبَ ـُ لُزُوبًا: مضبوط ہونا، مضبوطی سے جما ہونا، برقرار رہنا ـــ ب: سے چپکنا، لگا یا لپٹا رہنا۔ لَزِبَ ـَ لَزَبًا: متحد رہنا، مربوط ہونا۔ لَزِب جمع لِزاب: تھوڑا۔ لَزْبة جمع لِزَب: مصیبت، بلا، آفت، مصیبت ناگہانی۔ لازِب: چپکنے والی (چیز)، سخت مضبوط، مضبوطی سے جمی ہوئی (چیز)۔ صَارَ ضربةَ لازِبٍ: ضروری ہوجانا، ناگزیر ہوجانا۔ ضُرب ضربةَ لازِبٍ: سخت مصیبت سے دوچار ہونا، مصیبت کا شکار ہونا۔

لزج: لَزِجَ ـَ لَزَجًا و لُزُوجًا: لیسدار ہونا، چپکنے والا ہونا۔ صفت لَزِج ـ العَسَلُ باصبعه: انگلیوں سے شہد کا چپک جانا۔ تَلَزَّجَ: چپکنے والا ہونا، لیسدار ہونا ـــ البقل: سبزی کا لچکدار ہونے کی وجہ سے ایک کا دوسرے پر جھکنا ـــ تِ الدابةُ البقولَ: جانور کا سبزی کا پتہ چلانا۔ رجلٌ لُزَجَةٌ و لَزِجَةٌ و لَزِيجةٌ: گھر پر رہنے والا۔ اللُزُوجة: لَزِج کا اسم، لسلساپن، چپ چپاپن، چپچپاہٹ، گاڑھاپن۔

○ لَزِج: چپکنے والا، لیس دار، جس پر لیسدار تہ جمع ہوگئی، چپچپا، لسلسا، گاڑھا، جوڑنے والا، ثابت قدم۔

لزق: لَزِقَ ـَ لَزَقانَ الرئةُ بالجنب: پیاس کی وجہ سے پھیپھڑے کا پہلو سے چپکنا ـــ لُزُوقًا و التَزَقَ به: سے چمٹنا، چپکنا۔ لَزَّقَ الشیءَ: کو چپکانا، کو اناڑی پن سے کرنا۔ لازَقَ لِزاقًا و مُلازَقةً هُ: کو چپکانا۔ اَلزَقَ ه به: کو سے چپکانا۔ اللِزْق: پہلو، ساتھی۔ کہا جاتا ہے: هو لِزْقي او بِلِزْقي: وہ میرا ساتھی ہے یا میرے پہلو میں ہے۔ اللِزاق (مص): لئی، سریش۔ لِزاق الذهب و لزاق الحجر و لزاق الرخام: ان خاص دھاتوں سے بنائی جانے والی دوائیں۔ اللَزُّوقة: پٹی، مرہم جو جسم کے درد والے حصہ پر لگایا جاتا ہے تاکہ درد میں کمی ہو یا درد دور ہو۔۔۔۔۔۔ عند الجراثين: پلستر۔ اُذُنٌ لَزْقاء: سر سے چپکا ہوا کان۔ اللَزُون و اللازُوق (طب): زخم کی دوا۔ اللَزِيق: قریب بہ پہلو۔ کہا جاتا ہے: هو لَزِيقي: وہ میرے پہلو میں ہے۔ اللَزِيق (ح): سمندری گھونگھا۔ اللُزَيقاء و اللُزَيقى (ن): بارش کی صبح پتھروں کی جڑوں میں اُگنے والی چیز۔ المُلزَق: منه بولا بیٹا۔

○ لَزِقَ ـَ لُزُوقًا ب: سے چپکنا، چمٹنا، کے ساتھ لگا رہنا۔ لَزَّقَ ه: کو ملانا، لگانا، جوڑنا، نتھی کرنا، کو لئی سے جوڑنا، چسپاں کرنا، فہرست میں نام درج کرنا۔۔۔۔۔۔ ہ ل: کو کسی کے گلے دھوکہ سے منڈھنا۔ اَلزَقَ ه: کو لئی سے جوڑنا، کو جوڑنا، کو لگانا، نتھی کرنا، چسپاں کرنا۔ اِلتَزق بمعنی لَزِق: لزق: (ـسے) متصل، ملحق، (ـسے) لملحقه، (ـسے) ملا ہوا، (کی) ہمسائیگی میں۔ لِزْقه یا بلِزْقه: کے پہلو کے قریب، کے قریب۔ لَزِق: چپکنے والا، چپچپا، لسلسا۔ لَزْقة: بندھن، پٹی (جس پر پانی اثر نہ کرے اور زخم خراب نہ ہو، زخم پر باندھنے کی پٹی، پلاسٹر۔ لِزاق: لیسدار، چپکانے والا، جوڑنے والا، ثابت قدم، سریش، سیمنٹ، لئی۔ لَزُوق و لازوق: پٹی، پلاسٹر، چپکانے والا پلاسٹر، پلاسٹر۔

لزم: ا۔ لَزِمَ ـَ لُزُومًا و لَزْمًا و لَزَامًا و لِزامًا و لِزامةً و لُزْمةً و لُزْمانًا الشیءُ: لازم رہنا، ہمیشہ ثابت رہنا ـــ بيتَه: گھر میں رہنا، کہیں نہ جانا ـــ هُ المالُ: پر مال واجب ہونا ـــ الغریمَ و به: قرض دار کو چمٹے رہنا ـــ الامرُ: کا حکم واجب ہونا ـــ کذا عن کذا: سے لازم آنا۔ لازَمَ لِزامًا و مُلازَمةً هُ: کے ساتھ رہنا، جدا نہ ہونا۔ اَلزَمَ اِلزامًا الشیءَ: کو لازم کرنا، ہمیشہ رکھنا ـــ هُ المالَ و العملَ او بالمال و العمل: مال یا کام کو پر واجب کرنا۔ کہا جاتا ہے: الزمتُ خصمی: میں اپنے حریف پر جھگڑے میں غالب آیا۔ اِلتَزَمَ ه: کے ساتھ رہنا، جدا نہ ہونا ـــ فلانًا: کو پکڑنا، گرفت میں لانا، کو پکڑنے کی کوشش کرنا۔ العملَ او المالَ: کام یا مال کو اپنے پر واجب کرنا۔ القریة او العشر او غیرهما: پیداوار کے بدلہ گاؤں کی مالگذاری یا عشر وغیرہ کا ضامن ہونا۔ اِستَلزَمَ الشیءَ: کو ضروری سمجھنا، ضروری کرنا۔ اللازِم م لازِمة جمع لَوازِم (فا): ضروری۔ کہا جاتا ہے: صَارَ الامرُ ضَربةَ لازِمٍ: یہ کام ضروری ہوگیا۔ لِزام: لگاتار، پیوستہ۔ ضَربةُ لِزام: لگاتار، پیوستہ ضرب۔ اللِزام (مص): موت، حساب، بہت چمٹنے والا۔ اللُزَمَة: چمٹا رہنے والا، جدا نہ ہونے والا۔ اللُزُومِية: لَزِمَ کا اسم۔ المُلازِم (اع): فوجی عہدہ جو لفٹیننٹ کے برابر ہے۔ المِلزَم و المِلزَمة جمع مَلازِم: لکڑی یا لوہے کا شکنجہ۔ المَلزُوم: لازم کیا ہوا۔

۲۔ لَزِمَ ـــ لَزْمًا الشئَ: کو جدا کرنا، ممیز کرنا۔ اللِزام: فیصلہ ـــ و اللِزْم: فیصلہ کرنے والا۔

○ لَزِمَ ـَ لُزُوما ه: سے چمٹنا، چپک جانا، جڑا رہنا، کے ساتھ جانا، کی رفاقت کرنا، سے لگاؤ رکھنا، تعلق ہونا، میں ثابت قدم رہنا، پر قائم رہنا، پر جمے رہنا، میں لگے رہنا، کو کرتے رہنا، کی کوشش کرتے رہنا ـــ ہ: کے ساتھ جڑا رہنا، سے مربوط ہونا، کے قریب رہنا، کے ساتھ باوفا رہنا ـــ ہ/ہ: سے جدا نہ ہوسکنا ـــ ہ: میں مستقل اقامت کرنا۔ لَزِم: ضروری ہونا، لازمی ہونا۔ لَزِمَهُ: کے لئے مطلوبہ (شے) ہونا، اشد ضروری ہونا، ناگزیر ہونا، پر فرض ہونا، واجب ہونا، کا فرض ہونا۔ لَزِمَ دارَه (فراشَه): گھر پر رہنا، صاحب فراش ہونا۔ لزم الصمت: خاموش رہنا۔ لازَمَهُ: کے ساتھ جانا، کی رفاقت کرنا، سے چپکنا، چسپاں ہونا، پر قائم رہنا، کے ساتھ رہنا، کو لگاتار کرنا، کے ساتھ لگا رہنا، کی صحبت میں ہونا، کے اردگرد ہردم ہونا، کو سونپا جانا، کے ساتھ جانا، کی معیت میں ہونا، کی خدمت کرنا، تیمارداری کرنا۔۔۔۔۔ ہ/ہ: سے جدا نہ ہوسکنے والا ہونا، لاینفک ہونا ـــ ہ: کوئی کام کرتے رہنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، میں ثابت قدم رہنا، کے لئے ثابت قدمی سے کام کرنا، کے لئے اچھی طرح نبھائی ہوئی کارروائی یا سرگرمی کرنا۔ اَلزَمَ ہ ہ: کو پر مجبور کرنا، کو پر ٹھونسنا۔۔۔۔۔۔ ہ ہ/ب: پر کوئی کام بطور فرض عائد کرنا، کو کا پابند کرنا۔ الزمه الحُجّةَ: پر ثبوت دینے کے لئے زور ڈالنا، کو دلیل تسلیم پر مجبور کرنا۔ الزمه الفراش: کو بستر میں رہنے کا پابند کرنا۔ اَلزَمَهُ المال او بالمال: پر کسی رقم کی ادائیگی عائد کرنا۔ تَلازَمَ: جدا نہ ہو سکنے والا ہونا، ایک دوسرے سے معروف ہونا، وابستہ ہونا۔ اِلتَزَمَ ہ: سے چمٹنا، لگا رہنا، جڑا رہنا؛ کو کرتے رہنا، میں ثابت قدم رہنا، پر جما رہنا، میں لگا رہنا، کی کوشش کرتے رہنا، کو تسلیم کرنا، کی اطاعت کرنا، کا بوجھ یا ذمہ داری اٹھانا، کی عادت ڈال لینا، کو دستور بنالینا، کو اپنا فرض بنالینا، اپنے آپ پر عائد کرنا ـــ ہ/ب: کو فرض کی طرح لینا، اختیار کرنا، کا عہد کرنا، اپنے آپ کو کچھ کرنے کا پابند کرنا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑہ اٹھانا، کا فرض منصبی، فرض، اخلاقی فرض ہونا، کا پابند ہونا، کا مستوجب ہونا، پر مجبور ہونا، کا ذمہ دار ہونا، کا اجارہ لینا، کا اجارہ قائم کرنا بلا شرکت غیرے کوئی (تجارت وغیرہ) کرنا۔ اِستَلزَمَ ہ: کو ضروری سمجھنا، کو ضروری بنانا، کی ضرورت پیدا کرنا، کو ناگزیر بنانا، کا تقاضا ہونا، کی ضرورت ہونا، درکار ہونا، کی حاجت ہونا، کا مطلوب ہونا۔ لِزمة جمع لُزَمات: سرکاری رعایت، لائسنس، حق رائے دہی یا شہریت یا وہ حق جو کسی فرد یا جماعت کو دستور میں دیا گیا ہو۔ لُزوم: احتیاج، ضرورت، حاجت محتاجی، ضروری چیز۔ حسب اللزوم: جیسا کہ مطلوب ہے، ضروری

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے۔عند اللزوم: ضرورت پڑے تو،ضرورت پڑنے کی صورت میں،اگر ضروری ہو۔لِزام: ضروری،ضروری مطلوبہ چیز، ضرورت، فرض، ذمہ داری کا احساس۔ کان لِزاما علیہ ان: کا فرض ہونا کہ، کیلئے ضروری ہونا کہ۔اَلزَم: زیادہ ضروری،سب سے زیادہ ضروری۔ مَلْزَمَۃ: قطع عدد یا لفظ جو فرموں کے شمار کے لئے چھاپا جاتا ہے۔ مِلْزَمَۃ: شکنجہ۔اِلزام: دباؤ،جبر، مجبوری،زبردستی۔الزامی: لازمی،ضروری،جبری، مطلوب۔اِلتِزام جمع التزامات: ضرورت،فرض، فریضہ، احساس ذمہ داری، احساس فرض، ذمہ داری، وعدہ، پابندی، ٹھیکہ، ٹھیکہ کا معاہدہ، ٹھیکہ پر دینا، رعایت، لائسنس، حق رائے دہی وشہریت: وہ حق جو کسی فرد یا جماعت کو دستور میں دیا گیا ہو، اجارہ۔ التزاماً: ٹھیکہ کے ذریعے، کام کے مطابق۔قام بالتزاماتہ: اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا۔کاللازم: جیسا کہ اسے ہونا چاہئے، مناسب طور پر، خوش اسلوبی سے۔لازِمَۃ: مقررہ وصف،جبلی خصوصیت،معینہ طرز کلام۔ملزوم: مجبور،پابند،رہین منت،ذمہ دار، جواب دہ،مستوجب،جسے رقم ادا کرنا ہو۔ مَلْزُوم بالاداء: قابل محصول،ٹیکسوں کا مستوجب۔ملزُومِیۃ: فرض،ذمہ داری،پابندی۔ملازم: سیکنڈ لفٹیننٹ۔ ملازم اوّل: فسٹ لفٹیننٹ۔ ملازمٌ ثان: سیکنڈ لفٹیننٹ۔مُلتَزِم: پابند،معاہدہ شدہ،مراعات یافتہ، اجارہ دار،ٹھیکیدار۔مُلتَزَم جمع مُلتَزَمات: ضرورت۔مُستلزَمات: ضرورتیں،بنیادی شرطیں، اولین شرائط،مطلوبہ (اشیاء)،ضروری یا ناگزیر نتائج۔

لزن: لَزَنَ ـلَزَنًا و لَزِنَ ـلَزَنًا و تَلازَنَ القومُ: لوگوں کا بھیڑ کرنا،جمگھٹا کرنا۔اللَزْن (مص): سختی۔عیشٌ لَزْنٌ: تنگ زندگی۔ماءٌ لَزْنٌ: تنگ پانی جو مشقت کے بعد حاصل ہو۔مکانٌ لَزْنٌ و لزِنٌ و مَلْزُونٌ: بھیڑ والی جگہ۔اللَزْنۃ و اللِزنۃ جمع لِزَن: سختی۔لیلۃٌ لَزْنۃٌ: بھوک،سردی یا خوف وغیرہ سے سخت رات۔ زمانٌ الْزَنٌ: سخت زمانہ۔

لزو: اللَازُوَرْد و اللازَوَرْد: ایک قیمتی پتھر سرخی وسبزی مائل نیلگوں رنگ کا جو بطور زیور استعمال ہوتا ہے۔ العلازوردی: نیلگوں رنگ کا۔

لسّ: الَسَّ ـلَسًّا القصعۃَ: پیالہ چاٹنا۔ت الدابّۃُ الکلاءَ: جانور کا گھاس کو زبان کے کنارے سے کھانا۔۔الطعامَ: کھانا کھانا۔الَسَّ المکانُ: کسی جگہ کا شروع سبزہ اگانا۔اللُسَاس: پودوں کی کونپلیں۔ واللُساس (ن): کمزور گھاس۔

۲۔اللُسُس: ماہر اونٹ والے۔

لسب: لَسَبَ ـلَسْبًا تہُ الحیّۃُ: کو سانپ کا ڈسنا۔ہ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔۔ بلسانہ: کو سخت سست کہنا۔لَسِبَ ـلَسَبًا بہ: سے چپکنا۔۔ العسَلَ: شہد چاٹنا۔اَلْسَبَ الحیّۃَ فلانًا: کو سانپ سے ڈسوانا۔رجُلٌ لَسّابۃٌ للناس: لوگوں کو طعن و تشنیع کرنے والا آدمی۔کہا جاتا ہے ما ترکَ لَسُوبًا او لَسُّوبا: اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔

○ لَسْتِك و لَسْتِیك: ربڑ،مٹانے والی ربڑ۔

لسد: لَسَدَ ـلَسْدًا و لَسِدَ ـلَسَدًا الاناءَ: برتن چاٹنا۔۔ العسلَ: شہد چاٹنا۔۔ اُمَّہُ: ماں کا تمام دودھ پی جانا۔فصیل مِلْسَدٌ: اونٹنی یا گائے کا بچہ جو اپنی ماں کا تمام دودھ پی جاتا ہو۔

لسع: الَسَعَ ـلَسْعًا ہُ: کو ڈسنا بعض کے نزدیک ڈنک سے ڈسنے کو لسع اور منہ سے ڈسنے کو لَدْغ کہتے ہیں۔ چنانچہ بچھو ڈنک سے ڈستا ہے اور سانپ منہ سے۔۔ ہُ بلسانہ: کو زبان یا بات سے تکلیف پہنچانا۔اَلْسَعَ فلانًا عقربًا: کو بچھو سے ڈسوانا۔۔ بین القوم: قوم میں اختلاف ڈلوانا۔اللُسَعَۃ و اللَسّاع: باتوں سے دکھ پہنچانے والا۔اللَسِیع جمع لَسْعَی و لُسَعَاء: ڈسا ہوا۔

۲۔لَسَعَ ـلَسْعًا فی الارض: زمین میں سفر کرنا۔

۳۔لُسِّعَ الرجُلُ: خانہ نشین ہونا۔المُلَسَّعَۃ: خانہ نشین۔المُلَسِّعَۃ: مقیم گروہ۔

۴۔اللُسُوع: بہت سے شگاف۔المِلْسَع: ماہر رہبر۔

○ لَسَعَ ـلَسْعًا ہ: کو ڈنک مارنا۔ ہ: کو جلانا۔ ہ: کو باتوں سے ٹھیس پہنچانا۔لَسْعَۃ: ڈنک۔طنز بھرے لفظ۔لاسِع: ڈنک مارنے والا،جلانے والا،طنز بھرا، درشت خو،تنگ مزاج،تیز،چبھتا ہوا۔

لسق: لَسِقَ ـلُسُوقًا و الْسَقَ و الْتَسَقَ: چمٹنا،چپکنا۔ کہا جاتا ہے ھو لِسْقی و لَسِیقی: وہ میرا قریبی دوست ہے۔اللُسُوق (طب): ایک دوا لزوق جیسی (دیکھو لزوق)الملسَّق: مُتَبَنّٰی، منہ بولا بیٹا۔

لسم: لَسَمَ ـلَسْمًا: چکھنا۔کہا جاتا ہے ما لَسَمَ لَسَامًا: اس نے کوئی چیز نہیں چکھی۔لَسِمَ ـلَسَمًا: حیا کی وجہ سے چپ رہنا، بول نہ سکنا۔ ہُ: کے ساتھ ہونا۔اَلْسَمَ ہُ الطریقَ: کو راستہ پر رکھنا۔۔۔۔ ہُ کلامًا: کو کلام سکھانا، کو کلام کی تلقین کرنا۔۔ و استَلْسَمَ الشیءَ: چیز طلب کرنا، ڈھونڈنا۔

لسن: لَسَنَ ـلَسْنًا فلانًا: سے بہتر بیان والا ہونا،کو برائی سے ... کرنا،گفتگو میں ... آنا ... العقربُ: کو بچھو کا ڈسنا۔۔ ولَسَّنَ الشیءَ: چیز کو زبان کی طرح نوک دار بنانا۔لَسِنَ ـلَسَنًا فلانٌ: بہت فصیح وبلیغ ہونا،خوش بیان ہونا۔لاسَنَ مُلاسَنَۃً الرجُلَ: پر جھگڑے اور بولنے میں غلبہ پانا۔اَلْسَنَ فلانًا قولًا او رسالۃً: کو بات یا چٹھی پہنچانا۔کہا جاتا ہے: اَلْسِنّی فلانا و اَلْسِنُ لی فلانًا کذا و کذا: فلاں کو میری یہ باتیں پہنچادو۔تَلَسَّنَ علی فلان: پر جھوٹ بولنا،افتراء کرنا۔۔ الجمرُ: چنگاری کا بھڑکنا۔اللِسْن: زبان،لغت،کلام۔اللَسَن: فصاحت۔اللَسِن: زبان کی شکل والا،خوش بیان۔ اللِسَان جمع اَلْسِنَۃ و اَلْسُن و لُسُنٌ و لِسانات: زبان مذکر ومؤنث۔ زیادہ تر مذکر۔(کہا جاتا ہے: فلانٌ ذولِسَانَیْن: فلاں شخص منافق،دغاباز اور فریبی ہے۔اَلْسِنَۃُ الناس علیہ حَسَنَۃٌ: یعنی لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں)لغت،خط،چٹھی۔۔۔۔عند الجغرافیین: سمندر میں گئی ہوئی ہموار زمین کا سرا۔ اسے الف بھی کہا جاتا ہے لسانُ العرب: عربوں کی زبان(لغت)لِسَان القوم: قوم کا نمائندہ یا ترجمان۔لسَانُ الحال: زبان حال یا ظاہری حالت سے جو کیفیت معلوم ہو۔لِسانُ الصِدق: اچھی شہرت،اچھا چرچا۔لِسَانُ المیزان: ترازو کا وہ حصہ جو تولتے وقت ہاتھ میں رہتا ہے۔لِسَانُ النار: آگ کا شعلہ۔لِسَانُ الحَمَل (ن): ایک قسم کا پودا۔ لِسانُ الکلب (ن): ایک قسم کا پودا۔لسان السبع (ن): ایک قسم کا پودا۔لِسانُ الشعَل: ایک قسم کا پودا۔لسان العصافیر: دردار درخت کا پھل۔ الحروف اللسانیۃ: ر، ز، س، ش، ص،ض۔ اللُسَیِّن: گھاس کی چوٹی سے نکلنے والی پتلی سی افزائش،مخلوط خاندان کے کرن پھول کا تاج گل۔ المُلَسِن (فا): فصیح،بہت بولنے والا۔المِلْسَن: وہ پتھر جو دروازے کے اوپر شکار کے لئے لٹکاتے ہیں۔ اور اس کے نیچے گوشت کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی درندہ اسے اٹھانے لگتا ہے تو پتھر گر کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔

المُلَسِّن(فا): فکر وحیرانی سے۔زبان کاٹنے والا۔ المُلَسَّن (مفع): زبان کی طرح نوک دار بنایا ہوا۔نَعْلٌ مُلَسَّنَۃٌ: زبان کی شکل کی سینڈل۔المَلْسُون: جھوٹا،شیریں کلام۔

○ لَسِن ـلَسَنًا: جادو بیان ہونا،شیریں کلام ہونا۔ لَسَّن ہ: کو تیز کرنا،مخروطی شکل کا بنانا،کو نوکدار بنانا۔ لِسان (مذکر مونث) جمع اَلْسِنَۃ و اَلْسُن: زبان،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لغت، مہنال، کسی کی طرف سے بولنے والا (mouthpiece) ترجمان (خصوصاً) جو اخبار یا کسی خاص جماعت کی ترجمانی کرے (organ)۔ علی لسانِه: اس کی زبانی، اس کے ذریعہ، اس کی معرفت۔ علی لسان الصحف: پریس کے ترجمان کے ذریعے۔ قیل علی لسانه ما: اس سے ایسی باتیں منسوب کی گئیں کہ ... افواہ ہے کہ اس نے ایسی باتیں کہیں کہ ... لسان رسمی: سرکاری ترجمان۔ متحدث بلسان وزارة الخارجية: وزارت خارجہ کا ایک ترجمان یا نمائندہ (spokesman)۔ باللسان یا لساناً: زبانی۔ دار علی السنة الخاص و العام: شہر بھر کی گفتگو ہونا، ہر ایک کے لب پر ہونا۔ لِسانُ الحال: زبان حال، وہ زبان جو چیزیں خود بولیں، خاموش زبان، بے زبان اظہار۔ (کسی جماعت یا سیاسی تحریک کا) ترجمان، اخبار۔ ولسانُ حالِه یقول: جب کہ وہ کہتا ہوا معلوم ہوا، ایسے ڈھنگ سے جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ۔ لِسانُ الحَمَل: کیلا، ایک قسم کا نرم شے کا درخت۔ لِسان العُصْفُور: جنگلی درخت کی ایک قسم۔ لِسانُ القفل: چٹخنی، کھٹکا۔ لِسانُ القوم: کی گروہ کا ترجمان یا نمائندہ۔ لِسانُ المفتاح: کنجی کی جڑ۔ ذولسانین: دو زبانوں والا، دو چہروں والا، حیلہ گر، دغا باز، فریبی، مکار، ریا کار، بے وفا، منافق، سخن ساز، جھوٹا، خود مطلبی۔ لِسانی: زبانی۔ مَلْسُون: جھوٹا۔ لِشْبُونَه: لِسبَن (پرتگال کا دارالحکومت)

لسو: لَسَا يَلْسُو لَسْوًا: تھوڑا کھانا۔

لش: ۱۔ لَشَّ ـُ لَشًّاهُ: کودھتکارنا۔ اللَّشّ (مص): ماش (دیکھو وش)(ن) سُمّاق: (ایک پودا جس کی پتیاں چمڑہ رنگنے کے کام آتی ہیں)۔

۲۔ لَشْلَشَ: ڈر سے بیقرار ہونا۔ اللشلاش: ڈر سے بیقرار ہونے والا۔

لشو: لشَا يَلْشُو لَشْوًا: خسیس ہونا، خبیث اور پاجی ہونا۔ لَاشَى مُلاشَاةً الشيءَ: کو معدوم کرنا۔ تَلاشَى تَلاشِياً الشيءُ: مضمحل ہونا، معدوم ہونا، نیست ہونا — المريضُ: مریض کے قوی کا رفتہ رفتہ کمزور ہونا اور اس کا قریب المرگ ہوجانا۔ — من التعب: تھکاوٹ سے قوی کا کمزور ہوجانا۔ التلاشی: اضمحلال

○ لَاشَى ہ: کو دبانا، کچلنا، تباہ کرنا، برباد کرنا، نیست و نابود کرنا۔ تلاشی: دبایا جانا، کچلا جانا، تباہ و برباد کیا جانا، نیست و نابود کیا جانا، معدوم ہونا، تباہ و برباد ہو جانا، ناکام ہونا، کالعدم ہونا، نظر سے اوجھل ہوجانا،

کافور ہوجانا، غائب ہونا، ناپید ہونا، جاتا رہنا، گم ہونا، زوال پذیر ہونا، انحطاط ہونا، زائل ہونا، پژمردہ ہونا، ماند پڑنا۔

لصّ: ۱۔ لَصَّ ـُ لَصًّا الشيءَ: کو چرانا، کو خفیف طریقے سے پردہ میں کرنا۔ ـ لَصَصًا و لَصَاصًا و لُصُوصِيَّةً و لَصُوصِيَةً: چور ہونا۔ تَلَصَّصَ: چور ہوجانا، چوروں جیسے اخلاق والا ہونا۔ اللَّصّ و اللِّصّ و اللُّصّ جمع لُصُوص و الصاص و لِصَصَة و لِصَاص م لصّة جمع لَصَّات و لَصَائِص: چور۔ المَلَصَّة: بہت چوروں والی زمین، چوروں کا گڑھ، اسم جمع بمعنی لصوص: یعنی بہت سے چور۔

۲۔ لَصَّ ـُ لَصًّا الباب: دروازہ بند کرنا۔ لَصَّصَ البنيانَ: عمارت کو مضبوط بنانا۔ اِلْتَصَّ الشيءُ به: سے چمٹنا۔ اللَّصَص (مص): کندھوں یا دانتوں کی آپس کی نزدیکی۔ الأَلَصّ: نزدیک کندھوں والا، نزدیک دانتوں والا۔ اللَّصَّاء جمع لُصّ: الأَلَصّ کا مونث۔ تنگ پیشانی، آگے پیچھے سینگوں والی بکری۔

۳۔ لَصْلَصَ الوتدَ و نحوَهُ: میخ وغیرہ کو نکالنے کے لئے ہلانا۔

○ تَلَصْلَصَ: چوری چھپی کام کرنا۔ لِصّ جمع لُصُوص و الصَاص: چور، رہزن، ڈاکو۔ لُصُوصِية: چوٹا پن، چرانے کی عادت، چوری۔ متلصلص: چوٹا، چور جیسا رویہ رکھنے والا۔ اتَى مُتَلَصْلِصًا اِلَيَّ: وہ میرے پاس کھسک آیا، چپکے سے چلا آیا۔

لصب: لَصِبَ ـَ لَصَبًا الجلدُ باللحم: دبلے پن کی وجہ سے چمڑے کا ہڈی سے لگ جانا۔ — الخاتَم فی الاصبع: انگوٹھی کا انگلی میں تنگ ہونا اور نکالنا مشکل ہونا۔ — السيفُ فی الغمد: تلوار کا میان میں چمٹ جانا۔ اِلْتَصَبَ الشيءُ: تنگ ہونا۔ اللِّصْب جمع لُصُوب و لِصاب: وادی کا تنگ حصہ، گھاٹی۔ اللَّصِب: بخیل، تنگ اخلاق والا۔ اللَّوَاصِب: تنگ اور گہرے کنویں۔ کہا جاتا ہے: سيفٌ مِلْصَاب: میان میں اکثر پھنس جانے والی تلوار۔ طريقٌ مُلْتَصِبٌ: تنگ راستہ۔

لصت: اللِّصت و اللَّصْت و اللُّصت جمع لُصُوت: چور۔

لصغ: لَصَغَ ـُ لُصُوغاً الجلدُ: جلد کا ہڈی پر خشک ہونا۔

لصف: لَصَفَ ـِ لَصْفًا الحجارةَ: پتھر کو ترتیب سے جوڑنا۔ — لَصْفًا و لَصِيفًا و لُصُوفًا لونُه: کا رنگ چمکنا۔ لَصِفَ ـَ لَصَفًا الجلدُ: جلد کا ہڈی پر خشک ہو

جانا اور اس پر چپک جانا۔

لصق: لَصِقَ ـَ لَصْقًا و لُصُوقًا و اِلْتَصَقَ بالشيء: سے چپکنا، چمٹنا۔ لَاصَقَ مُلاصَقَةً ہ: سے جڑا رہنا، سے متصل و ملحق ہونا، کا ہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اَلْصَقَ الشيءَ بالشيءِ: کو سے چپکانا۔ — بعرقوب البعير: اونٹ کی کونچیں کاٹنا۔ اللِّصْق و اللَّصِيق: نزدیک رہنے والا۔ کہا جاتا ہے: هو لِصْقِي و بلِصْقِي و لَصِيقِي: وہ میرے پہلو کے ساتھ رہتا ہے۔ اللَّصُوق: زخم پر چپکایا جانے والا مرہم، عضو پر باندھنے کی پٹی۔ المُلْصَق م مُلْصَقَة (مفع): منہ بولا بیٹا۔

○ لَصَّقَ ہ: کو جوڑنا، چپکانا۔ لاصَقَ ہ: سے ملحق، متصل یا ملا ہوا ہونا، کے ساتھ ہونا، کو چھونا، ...... ہ: سے رابطہ میں ہونا۔ اَلْصَقَ ہ ب: کو سے قریب لانا۔ ہ ب: کو کے خلاف دبانا۔ اَلْصَقَ لوحةً: عام اعلان کی جگہ پر لگانا۔ اَلْصَقَ به تُهْمَةً: کے خلاف الزام لگانا۔ تَلاصَقَ: آپس میں چمٹنا، چپکنا، متحد یا مربوط ہونا، بستہ ہونا، ڈلا بن جانا، اکٹھا ہونا، پڑنا، گھل مل جانا، ایک ہوجانا۔ اِلتصق بمعنی لَصِقَ۔ نیز التصق ب: سے چمٹے رہنا، سے چپکنا، پرفٹ آنا۔ بلصقه: سے متصل، سے قریب۔ هو بلصقی یا هو لِصقی: ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ لَصُوق: پلاسٹر (plaster)۔ مُلاصَقَة: اتصال، میل، ساتھ، اتحاد، تعلق، رابطہ، پیوند، رشتہ، ربط، نزدیکی، قرب، پیوستگی، قریبی تعلق۔ اِلْصاق: پوسٹر، دیوار پر چسپاں ہونے والا اشتہار۔ مُلْصَق: منسلک، نتھی، لئی یا گوند سے چسپاں کیا ہوا، جوڑا ہوا، قریب کیا ہوا، متصل، جمع مُلْصَقات: پوسٹر، دیوار پر چسپاں کیا جانے والا اشتہار، بلے کارڈ۔

لصو: لَصَا يَلْصُو لَصْوًا المرأةَ: عورت پر تہمت لگانا، کو گالی دینا...... ہُ و لَصَا اليه: شک کی وجہ سے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔

لصی: لَصَى يَلْصَى لَصْيًا اليه: بمعنی لصاه و لصا اليه — ہ: پر عیب لگانا — الرجلُ: گنہگار ہونا۔ اللَّصَاة: عیب۔

لض: لَضْلَضَ لَضْلَضَةً: دائیں بائیں بہت دیکھنا۔ اللضلاض: ماہر رہنما۔

لضم: لَضَمَ ـِ لَضْمًاهُ: پر سختی کرنا، زور دینا۔

○ مَلْضُوم: گنجان (صف) لٹی ہوئی (قطار)

لضو: لَضَا يَلْضُو لَضْوًا الرجلُ: اچھا راہبر ہونا۔

لظ: ۱۔ لَظَّ ـُ لَظًّا الباب: دروازہ بند کرنا — الشيءَ: کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چھپانا۔ الستر: پردہ لٹکانا۔ عنه و علیه الخبرَ: سے خبر چھپانا۔۔۔ الناقةُ بذنبها: دوڑتے وقت اونٹنی کا اپنی دم کورانوں میں دبانا۔۔۔ الشیءَ بکذا: کو سے چپکانا۔۔۔۔ بالامر: پر کام کا لازمی ہونا۔ اَلَطَّ علیه الامرَ: سے بات چھپانا۔۔۔۔ بالحجاب: پردہ چھوڑنا یا گرانا۔۔۔۔ الرجُلُ: جھگڑے یا کام میں سخت ہونا۔ اِلتَطَّ: چھپنا۔۔۔۔ الشیءَ: کو چھپانا۔ ۔۔۔ بالمسك: مشک میں لتھڑنا۔ اللَطّ (مص) جمع لِطَات: ہار یا حنظل کے رنگدار دانوں کی مالا۔ مخالف اللَطَطُ: چیز کا چھپانا، دانتوں کا گرنا یا کھایا جانا۔ اِللطَاط: وادی کا کنارہ۔ اللطاط: پہاڑ کی چوٹی کا کنارہ، پہاڑ کا پہلو۔ الألَطّ: جس کے دانت گر گئے ہوں یا کھائے گئے ہوں اور صرف جڑیں رہ گئی ہوں۔ السلُطاط: کرنی (لیپ یا پلاسٹر کرنے کی)، بیلن، وادی کا کنارہ، ساحل سمندر، پہاڑ کی چوٹی کا کنارہ، پہاڑ کا پہلو، چلتا راستہ، گھر کا صحن، چکی یا ہتھ چکی، دماغ تک پہنچنے والا زخم۔ ترسٌ مَلْطُوط (مفع): اوندھی کی ہوئی ڈھال۔

۲۔ لَطَّ ۔لَطًّا الرجُلَ حقَّهُ و عن حقّه: کے حق سے انکار کرنا۔۔۔ ۔لَطًّا هُ: کو لاٹھی سے مارنا۔ اَلَطَّ الغریمُ: کا حق روکنا۔۔۔ و تَلَطَّط حقَّ فلان: کے حق سے انکار کرنا۔ تین طاؤں (ط ط ط) کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے یہی مفہوم تلطّی حقه کہہ کر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اللَطَط: قرض خواہ کا حق روکنا۔

۳۔ اَلَطَّ فلانا: کی مدد کرنا۔

۴۔ اللاَطّ و المُلِطّ: خبیث، بدمعاش۔

لطأ: لَطَأَ ۔لُطُوءًا ہ بالارض: زمین سے چمٹنا۔۔۔ ہُ بالعصا: کی پیٹھ پر لاٹھی مارنا۔ لَطِیءَ ۔لَطَأً بالارض: زمین سے چمٹنا۔ اللاَطِئَة: اچھا نہ ہونے والا پھوڑا، دماغ تک پہنچنے والا زخم، چھوٹی ٹوپی جو سر سے چپکی ہوتی ہے۔ المِلْطَأُ و المِلْطَاة: سر کی ہڈی اور اس کے گوشت کے درمیان کا باریک پردہ۔

لطث: ا۔لَطَثَ ۔لَطْثًا هُ: کو کسی چوڑی/چپٹی چیز سے مارنا، کو تھپڑ مارنا۔۔۔ هُ بحجر: کو پتھر مارنا۔۔۔ هُ الامرُ: پر کوئی کام مشکل یا بھاری ہونا۔ تلاطَثَ الموجُ: موجوں کا ٹکرانا۔۔۔ القومُ: ہاتھوں سے ایک دوسرے کو مارنا۔ المَلاطِث: جسم کے وہ حصے جو چوٹ لگنے یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے درد کریں۔

۲۔ لَطَثَ ۔لَطْثًا الشیءُ: خراب ہونا۔

۳۔ لَطَثَ ۔لَطْثًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔

لطح: لَطَحَ ۔لَطْحًا هُ: کو تھپڑ مارنا۔ ۔به: کو زمین پر پٹک دینا۔

لطخ: لَطَخَ ۔لَطْخًا و لَطَّخَ الشیءَ بالمداد و نحوه: کو سیاہی وغیرہ سے آلودہ کرنا، لتھیڑنا۔۔۔۔ هُ بشرٍّ: پر دھبا لگانا، داغ لگانا، کلنک کا ٹیکہ لگانا، پر برائی کا الزام لگانا، عام لوگ کہتے ہیں: لطخ المصباح بالنار: اس نے چراغ کو آگ کے قریب کیا اور وہ جلنے لگا۔ تَلَطَّخ: آلودہ ہونا، لتھڑنا۔۔۔۔ با مرقبیح: شرمناک کام سے داغدار ہونا۔۔۔۔ بشر: برا کام کرنا۔ اللَطْخ (مص): ہر چیز کا تھوڑا حصہ۔ کہا جاتا ہے: سمعتُ لَطْخًا مِن خبر: میں نے تھوڑی خبر سنی۔ فی السماء لَطَخٌ مِن السحاب: آسمان میں تھوڑا سا بادل ہے۔ اللَطِخ: کھانے میں گندا، ہر وہ چیز جو اپنے رنگ پر نہ ہے۔ اللَطُوخ: جس سے آلودہ کیا جائے۔ اللُطْخَة جمع لُطَخَات و اللَطِیخ: احمق، بے وقوف۔

لَطَخَ ۔لَطْخًا ہ ب: کو سے داغدار کرنا، پر کا دھبہ ڈالنا، پر کا داغ لگانا، کو سے لتھیڑنا، پر کے چھینٹے ڈالنا، کو میں لت پت کرنا، کو سے آلودہ کرنا۔ تَلَطَّخ: گندا ہونا، دھبا پڑنا، بدرنگ ہونا، بٹہ لگنا، داغ لگنا۔ لَطْخَة جمع لَطَخَات: داغ، دھبہ، سیاہی کا بڑا سا دھبہ، بڑا سا بدرنگ دھبہ، بے عزتی، ذلت، رسوائی۔ لُطْخَة جمع لُطَخَات و لطیخ: گدھا، احمق، الو، بے وقوف، گاؤدی۔

لطس: لَطَسَ ۔لَطْسًا هُ: کو طمانچہ مارنا، کو کسی چوڑی چیز سے مارنا۔۔۔ الشیءَ: کو سخت روندنا، کو باریک پیسنا۔ ۔ هُ بحجر: کو پتھر سے مارنا۔ الحجرَ بالحجر: پتھر کو پتھر سے مارنا۔ لاطَسَ مُلاطَسَةً هُ: سے لتھڑنا، آلودہ ہونا۔ تَلاطَسَ الموجُ: لہروں کا آپس میں ٹکرانا، متلاطم ہونا۔ المِلْطَس جمع مَلاطِس و المِلْطاس جمع مَلاطِیس: گٹھلی کوٹنے کا پتھر، پتھر توڑنے کا ہتھوڑا، جس سے پتھروں یا چکیوں پر نقوش بنائے جاتے ہیں، اونٹ کا پاؤں۔

مِلطاس: تبر، کدال جمع مَلاطِیس۔

لطش: لَطَشَ هُ: کو ہاتھ سے مارنا (عام زبان میں)۔ لَطَّشَ ثیابَه: کپڑے گندے کرنا (سریانی عام زبان میں)۔

لطع: ا۔لَطَعَ ۔لَطْعًا الکلبُ او الذئب الماءَ: کتے یا بھیڑیے کا پانی پینا۔۔۔ الشیء بلسانه: کو زبان سے چاٹنا۔ ۔ت البئرُ: کنویں کا پانی خشک ہو جانا۔ هُ بالنار: کو آگ سے جلانا (گویا آگ کے شعلے نے سے چاٹ لیا) (صاح بان سمه)

نام کو دیوان سے مٹانا، دیوان میں نام لکھنا (ضد)۔ کہا جاتا ہے: لَطَع إصبَعَهُ: مرجانا۔ لَطِعَ ۔لَطَعًا: کے دانتوں کا گرنا اور صرف ان کی جڑوں کا باقی رہنا۔ صفت اَلْطَع۔ ۔۔۔ لَطْعًا الشیءَ بلسانه: کو زبان سے چاٹنا۔ تَلَطَّعَت الابلُ: اونٹ کے دانت بسبب بڑھاپے کے گر جانا۔ اِلتَطَعَ: برتن یا حوض کا سب پانی پی جانا۔۔۔ الشیءَ: کو چاٹنا۔ اللَطَع (مص): ہونٹوں کے اندر کی طرف کی سفیدی۔ اللَّطَعَة: بچے کے نیچے رکھا جانے والا موم جامہ۔ اللَطّاع: کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے والا۔ اللَطْعَاء جمع لُطْع: الالَطع کا مؤنث، لاغر۔

۲۔ لَطَعَ ۔لَطْعًا الغرضَ: اپنا مقصد حاصل کرنا۔ عینَهُ: آنکھ پر تھپڑ مارنا۔۔۔۔ فُلانًا بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔۔۔ و لَطِعَ ۔لَطْعًا فُلانًا: کو پیچھے سے لات مارنا۔

۳۔ اللَطْع جمع اَلْطاع: تالو۔ رجُلٌ لُطَع: کمینہ، دنی الاصل، بخیل، کنجوس۔

لَطَعَ ۔لَطْعًا ہ: کو مارنا۔۔۔۔ ہ: کو مٹانا، قلم زن کرنا۔ لَطْعة: داغ، دھبہ۔

لطف: ا۔لَطَفَ ۔لُطْفًا بفلان و لِفلان: پر/سے مہربانی کرنا۔۔۔۔ اللّٰهُ بالعبد و له: اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو توفیق دینا اور کرم فرمانا، کو بچانا۔ لَطُفَ ۔ لُطْفًا و لَطَافَةً: چھوٹا ہونا، باریک ہونا صفت لَطِیف: کہا جاتا ہے: لَطُف عنه: سے چھوٹا ہونا۔۔۔ کلامُهُ: کے کلام کا نرم ہونا۔ کہا جاتا ہے: لُطِفَ به: اس سے مہربانی کی گئی۔ لَطَّفَ الشیءَ: کو نرم بنانا، لطیف بنانا۔ لاطَفَ مُلاطَفَةً هُ: سے نرمی کا برتاؤ کرنا، سے نرمی سے بات کرنا۔ اَلْطَفَ السؤالَ: اچھی طرح سوال کرنا، خاکساری سے سوال کرنا۔۔۔۔ هُ بکذا: کو کا تحفہ دینا، سے کی مہربانی کرنا۔ تَلَطَّفَ الامرَ و فی الامر: میں خاکساری کرنا، کی التجا کرنا۔ تَلاطَفَ القومُ: آپس میں میل ملاپ کرنا۔ تلاطفوا فی الامر: میں نرمی کرنا۔ اِسْتَلْطَفَ هُ: کو لطیف پانا۔ اللُطْف (مص) جمع الطاف من قبل اللّٰه: اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور حفاظت۔ اللَطَف جمع اَلْطَاف: تھوڑا کھانا، احسان، تحفہ۔ کہا جاتا ہے: هؤلاء اَلْطَافُ فلان: یہ لوگ فلاں شخص کے ساتھی اور اہل ہیں۔ اللَطَفَةُ: تحفہ، ہدیہ۔ اللَطْفَان: نرمی کرنے والا۔ اللَطّاف: بہت نرمی برتنے والا۔ اللَطِیف جمع لِطَاف و لُطَفَاء: لطف و کرم والا، مہربان، نرم، باریک، پاکیزہ، اسماء حسنیٰ میں سے:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بندوں پر احسان کرنے والا، باریک سے باریک باتوں کا جاننے والا۔ ...... من الکلام مخفی معنی والا کلام۔ ...... من الاجرام نازک جسم، نرم جسم۔ اللطیفۃ جمع لطائف لطیف کا مؤنث، دل میں انس پیدا کرنے والا نکتہ۔ التلطیف (مص) عند القراء: فتح کو کسرہ کی طرف اور الف کو یاء کی جانب جھکانا۔ (الامالۃ)۔ المُلَطِّف (طب) سکون بخش یا مسکن دوا۔

۲۔ لَطَفَ ـُ لُطْفًا الشیءُ قریب ہونا۔ اَلْطَفَ الشیءَ بجنبہ کو پہلو سے چمٹانا۔ ...... بہ حیلہ کر کے اس کے بھیدوں سے واقف ہونا۔ اِسْتَلْطَفَ الشیءَ بجنبہ کو پہلو سے چمٹانا۔ الملاطف من الاضلاع سینہ میں ملی ہوئی پسلیاں۔

۳۔ لَطَفَ ـُ لُطْفًا / ب سے مہربان اور بامروت ہونا۔ لَطُفَ ـُ لَطَافَۃً باریک ہونا، نازک ہونا، نفیس ہونا، حسین ہونا، پاکیزہ، شستہ ہونا، نازک مزاج ہونا، دل آویز ہونا، دلکش ہونا۔ لَطَّفَ ہ کو نرم کرنا، ہلکا کرنا، دھیما کرنا، کو کم کرنا، گھٹانا، ڈھیلا کرنا، کو تسکین پہنچانا، کو افاقہ دینا، میں تخفیف کرنا۔ ...... ہ من ...... کو کم کرنا، کو اعتدال پر لانا، کی سختی کم کرنا، کو نرم کرنا، کو ہلکا کرنا۔ لاطفہٗ سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کے ساتھ فیض رسانی سے پیش آنا، کے ساتھ خلیق، شائستہ اور مہذب ہونا، بامروت، با اخلاق ہونا، کے مطابق کام کرنے والا ہونا، بہت ہی مہربان، شفیق یا مشفق ہونا، کو خوش کرنا، کی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، کو چومنا، کو بہت لاڈ پیار کرنا۔ لاطفہٗ علی کتفہ کے کندھے پر تھپکی دینا۔ تَلَطَّفَ کم ہونا، اعتدال پر آنا، نرم ہونا، مہذب، خلیق یا شستہ ہونا، بامروت اور مہربان ہونے کا مظاہرہ کرنا ...... ب کو از راہ کرم کرنا۔ ـــ ب علی کو از حد مہربانی سے کچھ عطا کرنا، کو کچھ دینے کی مہربانی کرنا۔ (جیسے کو مشورہ دینے کی مہربانی کرنا)۔ ...... ب کے ساتھ نفیس ہونا، پرلطف یا خوشگوار ہونا، نرم ہونا، محبت آمیز ہونا، کو ہموار بنانا، کو ساتھ ملا لینا (مختلف حیلوں، ناقابل بیان ذرائع یا نوازشوں سے)۔ ـــ ب فی کوئی کام نرمی، احتیاط سے کرنے لگنا۔ ـــ ب کو در پردہ، مخفی طور پر، یا پوشیدہ طور پر کرنا۔ تلاطف اپنے آپ کو بامروت اور مہربان ظاہر کرنا، مہذب، خلیق یا شائستہ ہونا، خوش اخلاق ہونا، نفاست پسند ہونا۔ اِسْتَلْطَفَ ہ کو خوبصورت، شیریں، خوشگوار، پرلطف یا نفیس پانا، کو پسند کرنا، کو خوشگوار اور دلکش، مرغوب اور پسندیدہ پانا۔ لُطف جمع الطاف: مہربانی، فیض رسانی، دوستانہ سلوک، نرمی، شائستگی، شرافت، بردباری، شفقت، نرم دلی، نرمی، ملائمت، خوش خلقی، مروت، نفاست، زیرک، خوبصورتی، نزاکت، جسم کی نزاکت آمیز خوبصورتی۔ بلطف: آہستگی سے، دھیمے سے، نرمی سے۔ لطافۃ: باریکی، نفاست، نزاکت، لطافت، دلکشی، خوش اسلوبی، دلربائی، دل آویزی، حسن و جمال، مہربانی، کرم، فیض رسانی، دوستانہ سلوک، شائستگی، خوش خلقی، مروت، خلق زندہ دلی، شگفتگی، شستگی، تصنع، بناوٹ۔ لطیف جمع لطاف و لطفاء: باریک، نازک، نفیس لطیف، خوش ذائقہ، مزیدار، لذیذ، تھوڑا، چھوٹا، غیر اہم، نرم، دھیما، ہلکا، ملائم، شیریں، معتدل، خوشگوار، دل پذیر، سہانا، ملنسار، خوش خلق، دل آویز، دلکش، قابل محبت، مہربان، مشفق، دوستی کا برتاؤ کرنے والا، مہذب، خلیق، بامروت، شائستہ، متواضع، باادب، خندہ جبیں، خوش اخلاق، صحت بخش، خوبصورت، دل فریب، دلربا، من موہنا، حسین جاذب نظر، شائستہ، زندہ دلی سے پر، تیز طبع، ذہین، بذلہ سنج، پرلطف شستہ، پاکیزہ، خوبصورت و خوش وضع۔ اللطیف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام۔ یا لطیف اے میرے خدا۔ الجنس اللطیف صنف نازک۔ لطیفۃ جمع لطائف: پھبتی، لطیفہ، چٹکلا، مذاق کا فقرہ، چست کیا ہوا فقرہ، مذاق، دل لگی، لطافت، نزاکت، باریکی، موشگافی، نفیس اور لذیذ چیزیں۔ لطائف الحیل: لطیف چالیں۔ لطائف النکات لطیف مذاق۔ الطف: زیادہ اچھا، زیادہ خوب، زیادہ نازک، زیادہ مہربان، زیادہ نفیس، زیادہ خوشگوار، زیادہ پرلطف، زیادہ شستہ۔ ملاطفۃ: دل آویز سلوک یا برتاؤ، دل آویزی، دلکشی، مروت، شائستگی، تہذیب، انسانیت، خوش خلقی، دوستانہ سلوک، فیض رسانی، مہربانی، پیار، چمکار، جمع ملاطفات: بوسہ بازیاں، ناز برداریاں۔ مُلَطِّفات: مسکن دوائیں۔

لطم: لَطَمَ ـِ لَطْمًا ہٗ: کو تھپڑ مارنا، اسی سے ضرب المثل ہے: لو ذاتُ سوارٍ لطمتنی کاش کہ کوئی کنگن والی عورت مجھے طمانچہ مارتی (بہتر صورت کے مقابلہ میں گھٹیا صورت اختیار کرنے پر یا کم رتبہ شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔) لَطَمَ ہٗ بکذا: کو سے چپکانا۔ ـــ ت الغرۃُ الفرسَ: گھوڑے کی پیشانی پر کی سفیدی کا لمبا چوڑا ہونا۔ لُطِمَ الفرسُ: گھوڑے کا ایک رخسار پر سفید داغ والا ہونا صفت لطیم مذکر و مونث کے لئے) جمع لُطُم ـــ الرجلُ: مظلوم ہونا۔ لَطَّمَ ہٗ: کو زور سے تھپڑ مارنا۔ ـــ الکتابَ خط پر مہر لگانا۔ لاطَمَ لِطامًا و مُلاطَمَۃً ہٗ: کو تھپڑ مارنا، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ تَلَطَّمَ وجھُہٗ: چہرے کا خاکستری رنگ کا ہونا۔ تلاطَمَ و التَطَمَ تِ الامواج: موجوں اور لہروں کا ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ ـــ القوم ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ اللَطْمۃ جمع لَطَمات تھپڑ۔ اللطیم: تھپڑ مارا ہوا، گھوڑ دوڑ کا نواں گھوڑا، ایک رخسار پر سفیدی والا گھوڑا، نر اونٹ، یتیم لڑکا جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، چھوٹا اونٹ جسے ستارہ سہیل کے طلوع کے وقت اپنی ماں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا مالک اس کا کان پکڑ کر اسے تھپڑ مارتا ہے اور اپنی ماں سے روکتا ہے۔ اللَطِیمۃ جمع لطائم مشک، نافہ مشک، عطاروں کا بازار۔ المَلْطَم رخسارہ۔ المَلْطِم وہ جگہ جہاں سمندر کی موجیں ٹوٹیں۔ المِلْطَم: بجھانے کا چیڑہ۔ المُلَطَّم (مفع) کمینہ، بخیل کنجوس، دنی الاصل۔

لَطَمَ ہ: چہرے پر (مایوسی، آہ وزاری وغیرہ میں) دو ہتڑ مارنا ...... ہ کو تھپڑ مارنا۔ ـ ہچکولے دینا، باہر پھینکنا۔ ـ ہ سے ٹکرانا۔ تلاطَمَ (دشمن فوجوں کا) لڑنا، گھونسوں کا تبادلہ کرنا، ایک دوسرے پر ضربیں لگانا، جھگڑنا، جنگ کرنا، (موجوں کا) ٹکرانا، متصادم ہونا۔ اِلْتَطَمَ: ٹکرانا، متصادم ہونا۔ لَطْمۃ جمع لَطَمات: ضرب، چوٹ، تھپڑ، کان پر تھپڑ مارنا، ہچکولہ، دھچکا، زور کا دھکا، حملہ، حملہ۔ لطیم: یتیم۔ مَلْطَم رخسارہ۔ مُلْتَطَم تصادم (بالخصوص لہروں کا) ہنگامہ، شورش، بلوہ، شور و غوغا (جنگ وغیرہ کا) لڑائی بھڑائی، ہاتھا پائی۔

لطہ: لَطَہَ ـَ لَطْھًا ہٗ: کو تھپڑ مارنا۔

لطو: لَطَا یَلْطُو لُطُوًّا: (بارش وغیرہ سے) کسی غار یا چٹان میں پناہ لینا۔ عوام لَطَی یَلْطِی کہتے ہیں۔

لطی: ۱۔ لَطَی یَلْطِی لُطِیًّا الرجلُ: زمین کے ساتھ چمٹنا۔ لَطِیَ ـَ لَطًی الرجلُ: کو بوجھل کرنا۔ تَلَطَّی تَلَطِّیًا علی العدو: دشمن کی غفلت کا انتظار کرنا۔ اللُّطَاۃ: قریب کے چور۔ اللَطَاۃ: زمین، جگہ۔ (ع ا) پیشانی یا پیشانی کا وسط۔ لَطَاۃُ الرجُل: آدمی کا سامان، آدمی کے پاس جو کچھ ہو۔ کہا جاتا ہے: القی بلطاتہ: اس نے اپنا بوجھ اتار دیا۔ المِلْطَی و المِلْطَاۃ: سر کی ہڈی اور گوشت کے مابین جھلی۔

۲۔ لَطِیَ ـَ لَطًی فلانًا بذلک: کے پاس کسی چیز کے متعلق گمان کرنا، سے غیر متفق ہونا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لَظّ: ا۔ لَظَّ ـُ لَظًّا و لَظِیظًا ءً: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ ـ بالشیءِ: کے ساتھ ہونا۔ ـ لَظًّاۃً: کو دھتکارنا
لاَظَّ لِظاظًا و مُلاظَّۃً فی الحرب: کو جنگ میں زچ کرنا۔ اَلَظَّ: اصرار کرنا ـــ المطرُ: بارش کا لگاتار برسنا۔ ـ بالمکان میں رہنا۔...... بالشیءِ کے ساتھ ساتھ ہونا، کے ساتھ چمٹا رہنا۔ تَلاظَّ القوم فی الحرب: جنگ میں لوگوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اللَّظُّ (مص) سخت طبیعت۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ لَظٌّ کَظٌّ بَظٌّ تابع مہمل ہے۔ المِلَظُّ و المِلظاظ: اصرار کرنے والا، ضدی۔

۲۔ تَلظلَظ تلظلُظًا ت الحیّۃُ: سانپ کا سخت غصہ سے سر کو ہلانا۔

۳۔ لَظلَظ لَظلَظۃً ت الحیۃ راسَھا سانپ کا سخت غصہ میں اپنا سر ہلانا۔ تَلظلَظ تِ الحیہ سانپ کا سخت غصہ میں حرکت کرنا۔ اللِّظلاظ من الرجال: بختی کرنے والا درشت خو، دمزاج، خوش بیان۔ یومٌ لُظاظٌ گرم دن۔

لَظَأ: اللَّظَأُ تھوڑی چیز۔

لظی: لَظِیَ یَلْظَی لَظًی تِ النارُ آگ کا بھڑکنا۔ لَظَّی تَلْظِیَۃً النارَ: آگ کو بھڑکانا۔ تَلَظَّی تِ النارُ: آگ کا بھڑکنا ـــ فلانٌ غصہ میں جل اٹھنا ...... ت المفازۃُ: بیابان کی لو کا بھڑکنا۔ ـ ت الحیّۃُ من السمّ: سانپ کا پھنکارنا۔ اللظی آگ یا اس کا شعلہ۔ لَظی معرفۃً لَظی (معرفہ کے طور پر): جہنم۔ (علَم اور مونث ہونے کی وجہ سے یہ لفظ غیر منصرف ہے)۔

⊙ لَظِیَ ـَ لَظًی بھڑکنا، شعلے کا لرزنا یا لپکنا، مشتعل ہونا، بھڑک اٹھنا، جل اٹھنا، جلنا، آگ بگولہ ہو جانا، جوش میں آنا، طیش میں آنا، شعلہ زن ہونا، بھڑکتا ہونا، بھرا ہوا ہونا، طیش، تاؤ، غصہ یا جوش سے جلنا۔ تَلَظَّی و التَظَی مندرجہ بالا معانی۔ لَظًی بھڑکتی ہوئی آگ، تیز شعلہ، بھڑک، جوش، اشتعال، لو، بھبوکا، شعلہ، لپٹ، غصہ۔

لَعّ: ا۔ اَلَعَّ المکانُ جگہ کا ابتدائی روئیدگی اُگانا۔ تَلَعَّی ابتدائی روئیدگی کھانا۔ ـ اللُّعاع: لَعا کھانا۔ اللعاع واحد لُعاعَۃ: ابتدائی روئیدگی۔ انما الدنیا لُعاعَۃٌ دنیا سبز پودے کی طرح ہے جسے بقا و دوام نہیں۔ ما بقی الا لُعاعَۃ صرف تھوڑی سی چیز بچی ہے۔ اللُّعاعۃ جمع لُعاع (ن) کاسنی، زرخیزی، بہتات، دنیا۔

۲۔ اللَّعّۃ من النساء پاک دامن خوبصورت عورت۔

اللُّعاعَۃ جمع لُعاع: گھونٹ۔ لُعاعۃُ الإناء برتن کا خالص حصہ۔ اللَّعّاعۃ بہ تکلف سُر نکالنے والا۔ مُطربٌ لَعّاعۃ: موسیقار جو سُروں میں غلطی کرے۔ عسلٌ مُتَلَعّ: شہد جو اٹھانے سے پھیل جائے اور چپچپے پن کی وجہ سے نہ ٹوٹے۔

۳۔ لَعلَعَ العظمَ و نحوَہٗ: ہڈی وغیرہ کو توڑنا۔ تَلَعلَعَ: ٹوٹ جانا۔

۴۔ لَعلَعَ الرعدُ بادل کا گرجنا...... بالعاثر پھسلنے والے سے لَعْ یا لَعلَع یا لعکہنا (یہ تحریک پیدا کرنے کی دعا ہے)۔ اللَّعلَع (ح) بھیڑیا۔

۵۔ لَعلَعَ السرابُ سراب کا چمکنا ـــ من الجوع: بھوک سے غمگین ہونا، ـ من الشیِ: پریشان ہونا۔ ـــ الرجلُ: تھکاوٹ یا بیماری سے کمزور ہو جانا۔ ـــ الکلبُ پیاس کی وجہ سے کتے کا زبان لٹکانا۔ اللَّعلَع: سراب۔ اللَّعلاع بزدل۔

۶۔ اللَّعلَع (ن) ایک حجازی درخت۔ عسلٌ مُتَلَعلِعٌ اٹھانے پر پھیل جانے والا شہد۔

لعب: ا۔ لَعَبَ و لَعِبَ ـَ لَعْبًا الصبیُّ: بچے کے منہ سے رال ٹپکنا۔ اَلْعَبَ الصبیُّ: بچہ کا رال ٹپکانا۔ اللعاب: رال (منہ کی)، لُعابُ النحل: شہد۔ لُعابُ الحیّۃِ و نحوھا: سانپ وغیرہ کا زہر۔ لُعابُ الشمس: سورج کی کرنیں، مکڑی کا وہ تار جو وہ آنے جانے کیلئے لٹکاتی ہے، شیطان کی ڈور۔ لُعاب السفرجل و نحوہ: بہی کے دانوں سے بنائی جانے والی ایک دواء۔ اللُّعابی لعاب کی، لعاب کے متعلق، لعابی۔ اللُّعابِیَّۃ: پھلوں سے بنایا جانے والا مشروب، پھلوں کا رس۔ ثغرٌ مَلْعُوبٌ رال والا منہ۔

۲۔ لَعِبَ ـَ لَعْبًا و لَعِبًا و لِعْبًا و تَلْعابًا کھیلنا، مزاح کرنا، لذت یا تفریح کیلئے کوئی فعل کرنا، ایسا کام کرنا جو کوئی فائدہ نہ دے۔ ـ بکذا: کو کھیل کی چیز بنانا۔ ـ فی الامر کام کو حقیر جاننا۔ ـــ علی القانون وغیرہ من الآت الطرب: بربط وغیرہ بجانا۔ لَعِب دوراً کہنا غلط ہے۔ مَثَّل دوراً کہنا چاہئے۔ اس کے معنی ہے اس نے ایک کردار ادا کیا۔ ـــ ت الریاحُ بالدیار: ہواؤں نے گھروں کو مغلوب کر لیا یا ان پر غلبہ پالیا۔ لَعَّبَ: بمعنی لَعِبَ۔ لاعَبَہٗ مُلاعَبَۃً: آپس میں کھیلنا۔ اَلْعَبَ: بمعنی لَعِبَ۔ ـ ہٗ: کو کھلانا یا اس کے پاس کھیلنے کی کوئی چیز لانا۔ تَلَعَّبَ و تلاعَبَ: بمعنی لَعِبَ کہا جاتا ہے: لعبت بہ الھموم و تلعّبت...

اسے کھیل کی چیز بنا لیا۔ اللَّعِب (مص) کھلاڑی۔ اللِّعِب: کھلاڑی۔ اللُّعْبَۃ جمع لُعَب: لَعِب کا اسم کھیل، کھیل کی باری۔ (کہا جاتا ہے: اُقعُدْ حتی افرغ من ھذہ اللُّعْبۃ۔ میرے کھیل سے فارغ ہونے تک بیٹھے رہو) کھیلنے کی چیز جیسے شطرنج، تِلی، اضحوکہ، بے وقوف، جس سے مسخری کی جائے۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ لُعْبَۃٌ: مرد جس سے کھیلا جائے۔ اللَّعْبَۃ لَعِب کا اسم مرہ۔ اللِّعْبَۃ: لَعِب کا اسم نوع۔ اللُّعَبَۃ بڑا کھلاڑی، بڑا مزاحیہ، دل لگی کرنے والا۔ اللَّعّاب: پیشہ ور کھلاڑی، بہت کھیلنے، مزاح کرنے یا دل لگی کرنے والا۔ اللَّعُوب جمع لَواعِب و لَعائِب۔ ناز و انداز والی حسینہ۔ کہا جاتا ہے: جاریۃٌ لَعُوبٌ ناز و انداز والی لڑکی۔ اللِّعِّیب و التِّلِعّاب و التِّلْعاب و التَّلْعابۃ و التِّلِعّابۃ و التِّلِعّابَۃُ و التِّلِعّاب و التِّلْعِیبۃ و الاُلْعُبان: بہت کھیلنے، مزاح کرنے یا دل لگی کرنے والا۔ اللُّعْبَۃ: چھوٹی گڑیا۔ الاُلْعُوبۃ جمع الاعیب: کھیل۔ المَلْعَب جمع مَلاعِب: کھیل کی جگہ، کھیل کا میدان۔ ملاعبُ الریاح: ہواؤں کی آمد و رفت کی جگہیں۔ کہا جاتا ہے: تَرَکْتُہٗ فی ملاعب الجنّ: میں نے اسے گمنام جگہ میں چھوڑا۔ المِلْعَبۃ و المُلْعَبَۃ: بغیر آستین کی قمیض جس کو پہن کر بچے کھیلتے ہیں۔ المُلاعِب فا۔ مُلاعِبُ ظِلِّہٖ (ح): لمبے بازوؤں اور چھوٹی گردن والا ایک پرندہ۔

۳۔ اِسْتَلْعَبَ ت النخلۃُ: کھجور کے درخت کا پہلے پھل باقی رہتے ہوئے دوبارہ شگوفہ نکالنا۔

⊙ لَعَبَ و لَعِبَ ـ لَعْبًا: منہ سے رال بہانا، شرابیوں یا بچوں کی طرح رال بہنا، دل لگی کرنا، ٹھٹھول کرنا۔ لَعِبَ ـ لُعْبًا و لِعْبًا و لَعِبًا و تلعابًا ب۔ کے ساتھ کھیلنا۔ ـــ علی موسیقی کا کوئی آلہ بجانا۔ ـ ب ـ سے کھیلنا، دل بہلانا، غیر سنجیدہ باتیں کرنا، کلول کرنا، پیار کرنا، جی بہلانا۔ ـ علی کو فریب دینا، دھوکا دے کر پھانس لینا، سے دغا بازی کرنا، بہکانا، الو بنانا، ٹھگنا۔ لعب الاوراق: تاش کھیلنا۔ لعب دوراً: پارٹ یا رول ادا کرنا۔ لعب الموسیقی: موسیقی تخلیق کرنا۔ لعب بالشطرنج شطرنج کھیلنا۔ لعبت بہ الھموم: وہ غموں کا دل بہلاوا بن گیا، وہ غموں کی تفریح بن گیا، وہ غموں کا شکار بن گیا۔ لعب فی عقلہ: کا دماغ خراب کر دینا۔ لَعَّبَ ہٗ کو حرکت میں لانا، دم ہلانا۔ لاعَبَ ہٗ: کے ساتھ کھیلنا، سے دل لگی کرنا، سے ٹال مٹول کرنا، سے مذاق کرنا۔ اَلْعَبَ ہٗ کو کھلانا، کے کھیلنے کا باعث بننا۔ تَلَعَّبَ کھیلنا، شوخی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کرنا۔ تَلاعَبَ ب: کے ساتھ کھیلنا، کو چھیڑنا، سے مذاق کرنا، کا مذاق اڑانا، کی ہنسی اڑانا، پر ہنسنا، کو بنانا، کو بے وقوف بنانا۔ تَلاعَبَ: چال چلنا، دغابازی کرنا۔ لَعْب و لِعب و لَعِب جمع اَلعاب: کھیل، تفریح، ہنسی، ٹھٹھا، ہنسی مذاق، دل لگی، دل بہلاوا، فرصت کا مشغلہ، ذریعہ تفریح۔ لعب القمار: جوا کھیلنا، قماربازی۔ الالعاب الاولمبية: اولمپک کھیلیں (the Olympic games)۔ الالعاب ریاضیة: ورزشیں، کسرتیں، کھیل کود، کود پھاند (athletics)۔ دوڑ کود کے مقابلے (sports)۔ الالعاب سِحرية: کرتب، شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، جادو، جادوگری، فسوں گری۔ الْعابُ القُوَى: ورزشیں، کسرتیں (athletics)۔ الالعاب نارية: آتشبازی (fire-works)۔ ساحة الالعاب: کھیلوں کا میدان۔ مُدَرِّسُ الالعاب: کھیلوں کا استاد یا معلم۔ athlatic coach, athletics instructor۔ لَعِب: پرمذاق، ہنسوڑ، دل لگی باز، دل چسپ، خوش وخرم، شاداں وفرحان، خوش۔ لُعْبَة: کھیل، فریب، دھوکا، چال۔ لُعبة جمع لُعَب: کھلونا، گڑیا، کھیل، ہنسی، تضحیک کا ہدف، اضحوکہ۔ لُعَبَة و لُعَّاب و لِعِّيب: بہت زندہ دل۔ لُعاب: لعاب دہن، تھوک، رال۔ لُعابُ الشمس: جالا، ہوائی، تاریں، مکڑی کا جالا، شیطان کی ڈور۔ لُعَيبة جمع لُعَيْبات: (چھوٹی) گڑیا۔ لعوب: چنچل نخرے باز، معاشقہ کرنے والی (عورت)، کھلنڈرا، شوخ، شوخ مزاج، زندہ دل، پرمذاق، کلول کرنے والا، ادنی سا، ذرا سا، ادنی سی، ذرا سی۔ سال لعابه علی: کیلئے اس کے منہ میں پانی آگیا۔ اُلعوبة جمع الاعيب: کھلونا، کھیل، نخرہ، ناز و نیاز، شوخی، خرمستی، مذاق، دل لگی، مکر، چال، فریب داؤں، گھات، کرتب، ہاتھ کی چالاکی۔ مَلْعَب: کھیل کا میدان، سٹیڈیم (stadium)، تھیٹر، منڈوا (playhouse)، سرکس رنگ۔ جمع مَلاعِب: مقابلے، کھیلوں کی ٹیمیں۔ مَلْعَبة: کھلونا۔ تَلاعُب: (قماربازی یا سٹے بازی کی)، بازی، قماربازی، قیود سے آزاد کھیل۔ مجال للتلاعب: آزاد کھیل، آزادو دسترس، آزادی عمل، گنجائش، آزادی، کھلی چھٹی۔ حد۔ لاعِب: کھیلنے والا، کھلاڑی، اتھلیٹ (attlete)، جمناسٹک کا ماہر، ورزشی۔ لاعِبُ الجنباز: اتھلیٹ، جمناسٹک کا ماہر، ورزشی۔ ملعوب جمع ملاعيب: تھوک سے ڈھکا ہوا، رال بہتا ہوا، رال ٹپکاتا ہوا، دل لگی کرنے والا، شوخی، خرمستی، چال، فریب، حیلہ، بہانہ۔ ملاعِب: ساتھی کھلاڑی، ہمجولی، فریبی، دغاباز، مکار، متفنی۔

لعث: لَعِثَ لَعَثًا: ست ہونا، سستی کرنا۔ صفت اَلْعَث م لَعْثاء ج لُعْث۔

۲۔ لَعْثَمَ و تَلَعْثَمَ في الامر: میں پس و پیش کرنا، پر سوچنا، سے ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے: سألته عن الشيء فلم يتلعثم: میں نے ایک بات کے بارے میں پوچھا تو اس نے فوراً جواب دیا۔ ما تَلَعْثَمَ عن شيء: نہ اس نے دیری کی اور نہ جھٹلایا۔

○ تَلَعْثَمَ: ہچکچانا، متأمل ہونا، ہکلانا، ہکلا کر کہنا۔

لعج: لَعَجَ لَعْجًا الضربُ فلانًا: کو چوٹ کا تکلیف دینا اور سوزش پیدا کرنا۔ الشيءُ في صدره: کا سینہ میں کھٹکنا۔ الحب او الحزنُ فؤادَهُ: محبت یا غم کا کسی کے دل کو جلانا۔ لاعَجَ مُلاعَجَةً الامرُ: پر معاملہ کا سخت ہونا۔ الْعَجَ النارَ في الحطب: لکڑیوں میں آگ بھڑکانا۔ اِلْتَعَجَ: غمگین ہونا۔

اللاعِج (فا) جمع لَوَاعِج: جلانے والی محبت۔

اللُعُج: ہر جلانے والی چیز، چوٹ کی تکلیف جلن۔

○ لاعَجَهُ: کو روحانی اذیت پہنچانا، کو ذہنی کوفت پہنچانا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا، کو مغموم کرنا، کے لئے تکلیف دہ ہونا، کو ستانا۔ لَعْجَة: تکلیف، درد، دکھ۔

لاعج جمع لَواعِج: سرگرم، جلانے والی (محبت)۔

لَوَاعِج: سرگرم محبت، محبت کی گرمجوشی لگن یا دھن۔

لعذ: لَعْذَمَ في الامر: میں سستی کرنا۔ عن الکلام: میں حیرانی سے متردد ہونا۔ کہا جاتا ہے: قرأ فما تَلَعْذَمَ: اس نے بلا توقف وتردد پڑھا۔ کہا جاتا ہے: ما تلعذمنا شيئًا: ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ اللَعْذَمِيّ: حریص۔

لعز: لَعَزَ لَعْزًا هُ: کو دھکا دینا، مکا مارنا۔ ـــت الناقةُ فصيلَها: اونٹنی کا اپنے بچہ کو چاٹنا۔

لعس: لَعَسَ لَعْسًا هُ: کو دانتوں سے کاٹنا۔ لَعْوَسَ الطعامَ: کھانے کو چبانا (عوام کی زبان میں)۔ کہا جاتا ہے: ماذقتُ لَعُوسًا: میں نے کوئی چیز نہیں چکھی۔ اللَعْوَس جمع لَعاوِس: تھوڑا کھانے والا، کھانے کا حریص۔ (ح): بھیڑیا۔ المُتَلَعْوِسُ من الرجال: بہت کھاؤ۔

۲۔ لَعِسَ لَعَسًا: ہونٹ پر خوبصورت سیاہی والا ہونا۔ صفت اَلْعَس م لَعْساء جمع لُعْس۔ ...... ـــت الشفةُ: ہونٹ پر خوبصورت سیاہی ہونا۔ اللُعْسَة: ہونٹوں کا گہرا سرخ رنگ۔ الالعَس من النبات: گنجان پودا۔ لحمٌ مَلْعُوس: کچا سرخ گوشت۔

۳۔ تَلَعْسَمَ في امره: میں دیر لگانا۔

○ اَلْعَس: سرخ ہونٹوں والا۔

لعص: لَعِصَ لَعَصًا الامرُ: کام کا دشوار ہونا۔ تَلَعَّصَ علينا: (ہم پر) بہت مشکل ہونا۔

۲۔ لَعِصَ لَعَصًا الرجلُ و ـــ الرجلُ في الاكل و الشرب: کھانے پینے میں بہت حریص ہونا۔ صفت لَعِصٌ۔

لعط: لَعَطَ لَعْطًا: جلدی کرنا۔

۲۔ لَعَطَ لُعُطَّات الابلُ: گھروں کے اردگرد اونٹوں کا چرنا۔ ـــت الماشيةُ النباتَ: جانور کا پودے کھا جانا۔ اِلْتَعَطَتِ الابلُ: اونٹوں کا دور نہ جانا بلکہ گھروں کے اردگرد چرنا۔ المَلْعَط جمع مَلاعِط: گھروں کے اردگرد قریب واقع چراگاہ۔

۳۔ لَعَطَ لَعْطًا هُ: گردن پر داغنا۔ ـــهُ بابيات: کی شعروں میں ہجو کرنا۔ ـــه بسهم او بعين: کو تیر مارنا یا نظر لگانا۔ اللَعْط (مص): الالْعاط کا واحد: کالے یا زرد خطوط (لکیریں) جو عورت اپنے چہرہ پر کھینچتی یا بناتی ہے۔ اللُعْطَة: لَعَط کا اسم کالی یا زرد لکیر جو عورت اپنے رخسار پر بناتی ہے۔ بکری کی گردن کا سیاہ داغ، شکرے کے چہرے کی تیرگی۔ اللَعْطا: گردن پر سیاہ داغ رکھنے والی بکری۔

۴۔ لَعَطَ لَعْطًا هُ بحقه: کے حق میں ٹال مٹول کرنا۔

۵۔ اَلْعَطَ الرجلُ: مرد کا پہاڑ کے دامن میں چلنا۔ اللُعْط جمع اَلْعاط: پہاڑ یا دیوار کا پہلو۔ لُعْط الرمل: بغل۔ لُعْطُ اجبل: پہاڑ کا دامن۔

لعف: اَلْعَفَ و تَلَعَّفَ الاسدُ او البعيرُ: شیر یا اونٹ کا بار بار آنکھ کھولنا اور بند کرنا، شیر کا غصہ میں آکر حملہ کیلئے تیار ہونا، دبک کر بیٹھنا۔

لعق: ۱۔ لَعِقَ لَعْقًا و لُعْقَةً و لَعْقَةً العسلَ و نحوهُ: شہد وغیرہ کو زبان یا انگلی سے چاٹنا۔ صفت لاعِق جمع لَعَقَة۔ کہا جاتا ہے لَعِقَ فلانٌ اِصْبعَهُ: وہ مرگیا۔ لَعَّقَ و اَلْعَقَ فلانًا العسلَ: کو شہد چٹانا۔ کہا جاتا ہے رجلٌ وَعِقٌ لَعِقٌ: لالچی مرد۔ المَلْعَقَة (مص): اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے: "في الأرض لعقة من ربيع: زمین میں تھوڑے سے سبز پودے ہیں۔ اللُعْقَة (مص): چمچ بھر، چٹکی بھر، تھوڑی سی چاٹنے کی چیز۔ اللُعَاق: چاٹی ہوئی چیز کا منہ میں بقیہ۔ اللَعُوق: چاٹنے کی چیز جیسے شہد، دوا وغیرہ، تھوڑا توشہ۔ کہا جاتا ہے ما معنا الا لعوق: ہمارے پاس تھوڑی سی چیز ہے۔ اللَعُوقة: جلد بازی سے شروع کیا ہوا کام۔ المِلْعَقَة جمع مَلاعِق: چمچ، قاشق۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ اَلْعَقَ النساجُ الثوبَ: ہلکے سوت کا کپڑا بننا۔
۳۔ اِلْتَعِقَ لونُہٗ: رنگ کا بدل جانا۔
☆ لَعُوق: شہد یا شربت میں حل کیا ہوا سفوف۔ مِلْعَقَة شای: چائے کا چمچہ۔

لعل: لَعَلَّ: حروف مشبہ بالفعل سے ہے۔ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور توقع کا معنی دیتا ہے۔ جیسے: لَعَلَّ الحبیبَ قادمٌ شاید محبوب آجائے۔ خوف کے معنی کیلئے بھی آتا ہے، جیسے: لَعَلَّ الشِّدةَ نازلةٌ: ممکن ہے سختی واقع ہو، ایسا امکان بھی ظاہر کرتا ہے جس کے متعلق پختہ یقین نہ ہو، اس کا ل حذف کر کے عَلّ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس پر ما الکافّۃ بھی لاتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا عمل رک جاتا ہے جیسے: لَعَلَّما أضاءَتْ لكَ النارُ شاید آگ تمہارے لئے روشن ہو، جب اس کے ساتھ یاء متکلم ہو تو اکثر نون الوقایہ سے مجرد ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: لَعَلِّي و لَعَلَّنِي۔ اللَّعْل: ایک قیمتی پتھر (فارسی)

لعم: اللُّعَم: لعاب۔
۲۔ لَعْمَظَ لَعْمَظَةً و لِعماظاً اللحمَ: گوشت کو ہڈی سے نوچنا۔ اللَّعْمَظ جمع لَعامِظة و لَعامِيظ: حریص، شہوت پرست۔ رجلٌ لَعْمَظةٌ: بسیار خور لالچی مرد۔ اللُّعْمُوظ جمع لَعامِظة و لَعامِيظ: حریص۔ بن بلایا مہمان، روٹی پر کام کرنے والا۔ اللُّعْمُوظ جمع لَعامِظ و لَعامِيظ حریص، شہوت پرست۔

لعن: لَعَنَ ـَـ لَعْناً فلاناً: پر لعنت کرنا، کو شرمندہ کرنا، گالی دینا، دھتکارنا، نیکی سے دور کرنا...... نفسَہٗ: اپنے آپ پر لعنت کرنا۔ کہنا، مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ لَعَّنَ تلعیناً ہٗ: کو عذاب دینا۔ لاعَنَ لِعاناً و ملاعَنةً ہٗ: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ ـــ الحاکمُ بینھما: حاکم کا دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ تَلَعَّنَ و تلاعَنَ القومُ: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ اِلْتَعَنَ: اپنے آپ پر لعنت کرنا...... القومُ: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ اللاعِن (فا): لعنت کرنے والا۔ امرٌ لاعِنٌ: باعث لعنت کام۔ اللاعِنة: سڑک کا درمیانی حصہ، سڑک، راستہ، شاہراہ۔ اللَّعْن (مص): لعنت۔ أبَيْتَ اللَّعْنَ: زمانہ جاہلیت میں بادشاہ کا سلام، یعنی اے بادشاہ تو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے تو لعنت کا مستحق ہو۔ اللُّعَنة: جس پر لوگ ہمیشہ لعنت کریں، جو لوگوں پر بہت لعنت کرے۔ اللَّعْنة جمع لِعانٌ و لَعَنات: لَعَنَ کا اسم مرۃ۔ اللَّعْن: لعنت، عذاب، دکھ، ایذا۔ اللَّعّان و اللَّعّانِيَة: لعن کے اسم۔

اللَّعّان: بہت لعنت کرنے والا۔ اللَّعِین: ملعون، لعنت کیا ہوا، نظر انداز کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بدبخت، منحوس، مسخ شدہ، رسوا، ہلاک شدہ، شیطان، کھیت میں کھڑا کیا ہوا ڈراوا (دھوکا)، ڈراونا پتلا جو پرندوں اور جانوروں کو بھگانے کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے۔ (Scare-crow)۔ اللَّعِينة: ملعون کا اسم۔ جیسے مرھون کا اسم رھینہ ہے۔ المَلْعَنة جمع مَلاعِن: جائے رفع حاجت، وسط راستہ۔ المَلْعُون جمع ملاعین (مفع): لعنت کیا ہوا، پیٹ کا درد جو گھوڑوں کی موت کا باعث ہوتا ہے۔
☆ لاعَنَ: تہمت لگاتے ہوئے قسم کھانا۔ لِعان: الزام یا تہمت کی قسم یا حلفیہ بیان جو خاوند یا بیوی کے زنا کے ارتکاب کے متعلق دیا جاتا ہے۔ لعنۃ اللہ علیہ: اس پر خدا کی لعنت ہو۔ مُتَلاعِن: ایک دوسرے کو پھٹکارنے والا، مخالف، مخالفانہ، معاندانہ، مخاصمانہ۔

لعو: ۱۔ تَلَعَّى العسلُ: شہد کا گاڑھا ہونا۔
۲۔ اَلْعاعَ ای اوَّلَ النباتِ: ہریاول (یا خوشبودار پودے) اکھٹا کرنا۔ اَلْعَتِ الارضُ: زمین کا پہلی سبزی اُگانا۔
۳۔ اللاعِی: وہ جسے ادنی سی چیز سے ڈر لگے۔ اللاعية: لاعی کا مؤنث (ن): ایک پیلے رنگ کے پھولوں والا خوشبودار پودا۔ اللَّعا: حریص، لالچی، ٹھوکر کھانے والے کو کہتے ہیں۔ لَعاً لك: لعنی اللہ تجھے اٹھائے اور کھڑا کرے، یہ اس کے حق میں دعا کے طور پر کہا جاتا ہے اور بددعا میں کہتے ہیں: لا لَعاً لَكَ: اللہ تجھ کو نہ اٹھائے اور نہ کھڑا کرے۔ اللَّعاة جمع لِعاء و لَعَوات (ح): کتیا۔ اللَّعْو جمع لِعاء: بدخلق، کمینہ، لالچی۔ اللَّعْوة جمع لِعاء و لَعَوات: لَعْو کا مؤنث (ح): کتیا، سرپستان کے اردگرد کی سیاہی۔ کَلْبةٌ او ذِئبةٌ لَعْوَة: کتیا یا مادہ بھیڑیا جو اس حد تک لالچی ہو کہ کھانے کی چیز پر لڑائی کرے۔ لَعْوةُ الجوعِ: بھوک کی شدت۔ اللُّعْوَة: سرپستان کے اردگرد کی سیاہی۔ الألْعاء (ع ا): انگلیوں کے پورے۔
۴۔ لَعْوَق: کام میں تیزی اور پھرتی کرنا۔ اللَّعْوَق: کم عقل۔

لغب: ۱۔ لَغَبَ ـُـ و لَغِبَ ـَـ لَغْباً و لُغوباً و لُغوباً و لَغِبَ ـَـ لَغَباً: بہت تھک جانا۔ لَغَبَ السیرُ فلاناً: چلنے کا کسی کو بہت تھکا دینا۔ ـــ دابّتَہٗ: جانور پر بوجھ لاد کر تھکا دینا، جانور کو تھکا ہوا پانا۔ اَلْغَبَ السیرُ فلاناً: چلنے کا کسی کو بہت تھکا دینا۔ ـــ فلاناً: کو تھکانا۔ تَلَغَّبَ [illegible]
انسان یا حیوان کو دور بھگا دینا۔ ـــ سیرَ القومِ: لوگوں کو لے کر چلتا رہنا یہاں تک کہ وہ تھک جائیں۔ ـــ السیرُ فلاناً: چلنے کا کسی کو بہت تھکا دینا۔ کہا جاتا ہے: تَلَغَّبَتْھُم الاسفارُ و تَلَغَّبَتْ بھم القفارُ: سفروں نے انہیں بہت تھکا دیا یا انہیں ان کے ملک سے دور کر دیا۔ اللاغِب (فا) جمع لُغَّب: ضعیف، کمزور۔ کہا جاتا ہے: أتانا ساغباً لاغِباً: وہ ہمارے پاس بھوکا اور تھکا ماندہ آیا۔ اللاغِبة جمع لَواغِب: لاغب کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے: ریاحٌ لواغِبُ: کمزور ہوائیں۔ اللَّغْب و اللَّغُوب: کمزور، بے وقوف۔ اللَّغْب (مص): کہا جاتا ہے: أخذ بِلَغَبِ رقبتہ: اس نے اسے آلیا۔ اللَّغابَة و اللُّغُوبة: حماقت، کمزوری۔
۲۔ لَغَبَ ـَـ لَغْباً الکلبُ فی الاناء: کتے کا برتن میں منہ ڈالنا۔
۳۔ لَغَبَ ـَـ لَغْباً القومَ: لوگوں سے جھوٹی بات کہنا۔ ـــ علیھم: میں فساد ڈالنا۔ اللَّغْب: کلام فاسد، خراب پر، سھمٌ لَغْبٌ: خراب ترشا ہوا تیر۔ اللَّغَب و اللَّغِب و اللَّغِیب: خراب پر۔ کہا جاتا ہے: أکْفُفْ عنّا لَغْبَك: ہم سے اپنی بری باتوں کو روکے رکھو۔ اللُّغاب: خراب ترشا ہوا تیر۔
☆ لُغوب و لَغوب: تھکن، ضعف، کمزوری، سستی، ناتوانی، تکان، الکس، ماندگی، محنت، مشقت، تکلیف، مصیبت، سخت محنت۔ لاغِب جمع لُغَّب: تھکا ماندہ، ضعیف، نقیہ، ناتوان، مضمحل۔

لغد: لَغَدَ ـَـ لَغْداً الإبلَ العوائدَ: اونٹوں کو سیدھے راستہ پر لانا۔ ـــ ہٗ عن کذا: کو سے روکنا۔ ـــ فلاناً: کے لُغْدود پر مارنا۔ اللُّغْد جمع الألغاد و اللُّغْدود و اللِّغْدید جمع لَغادِید: ٹھوڑی کے نیچے حلق کا گوشت، حلق کا کوا، کان کی لو، کان کے اندرونی حصہ کا زائد گوشت، کہا جاتا ہے: عِلْجٌ من الأوغاد ضخم الألغاد: مضبوط جسم، کم عقل کی ٹھوڑی کے نیچے کا گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ المُتَلَغِّد: غصہ سے بھرا ہوا، سخت غضبناک۔
☆ لُغد جمع ألغاد و لُغود و لُغدود جمع لَغادِید: گلے کے مقام پر اور ٹھوڑی کے نیچے کا گوشت۔

لغز: لَغَزَ ـَـ لَغْزاً الشیءَ: کی شکل بگاڑنا۔ ـــ فی یمینہ: قسم کھانے میں دھوکا دینا۔ ـــ و ألْغَزَ الیربوعُ جُحرَہ: جنگلی چوہے کا اپنے بل کو پیچ دار کھودنا۔ ـــ فی الکلامِ و ألْغَزَ الکلامَ: پہیلیاں بجھوانا، گول یا پہلودار بات کہنا، مبہم بات کہنا، لفظی ہیر

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پھیر کرنا۔لاغَزَ مُلاغَزَۃً ہٗ: سے پہیلی جیسی بات کرنا۔
اللُغز و اللَغز و اللغز: چوہے یا گوہ کا بل۔ جمع
اَلغاز من الکلام: پہیلی، معما، چیستان۔الاَلغاز:
پیچ دار راستے۔المِلغاز: چغل خور، تہمت لگانے والا۔
اللُغَیزاء و اللُغَیزٰی و الاُلغُوزَۃ من الکلام:
پہیلی، معما، چیستان۔المُلغَز من الکلام: پیچ دار
بات، پیچیدہ اور مشکل بات۔

○ لَغز ـلَغزًا، و لاغَزَ و اَلغَز: پہیلیاں بجھوانا، گول یا
پہلو دار بات کرنا، مبہم بات کہنا، لفظی ہیر پھیر کرنا۔لُغز
جمع اُلغاز: پہیلی، معما، چیستان، پیچیدہ بات، ایسی
بات جو سمجھ میں نہ آئے، راز۔لُغزُ الکلمات
المتقاطعۃ (ٹکراتے ہوئے لفظوں والا) معمہ،
لفظی چوکور (crossword puzzle)۔مُلغَز:
حیران کن، الجھن میں ڈالنے والا، معما سا خفیہ،
پراسرار، تاریک، غیر واضح، دھندلا سا، مبہم، ذومعنی،
مشتبہ۔

لغط: لَغَط ـلَغطًا و لَغِیطًا الحمامُ او القطا: کبوتر یا
بھٹ تیتر کا غوں غوں کرنا۔ لَغطًا و لِغاطًا و لَغَّطَ
و اَلغَطَ القومُ: شور کرنا۔اللَغط (مص)
دروازے سے آگے کا صحن و اللَغط جمع اَلغاط:
آواز، شور و غل، یا مبہم نہ سمجھ میں آنے والی آوازیں۔

○ لغط ـلَغطًا و لِغاطًا: غوغائی ہونا، شور مچانے والا
ہونا، شور و غل برپا کرنا، چلانا، چیخ و پکار کرنا۔لَغَّطَ و
اَلغَطَ (مندرجہ بالا معنی)۔لَغط و لَغَط جمع اَلغاط:
آواز، شور و غل، شور و غوغا، غل غپارہ، چلانا ـــ عن:
پر ماتم یا کیلئے ماتم۔

لغف: المَلغَف ـلَغفًا الرجُلَ او الاَسدُ: آدمی یا شیر کا
تیز نظروں سے دیکھنا۔لَغِفَ ـلَغفًا الاِناءَ: برتن
چاٹنا ـــ الادام: روٹی کے ساتھ سالن، چٹنی، اچار،
مسالہ وغیرہ کو لقمہ بنانا۔لاغَفَ مُلاغَفَۃً ہٗ: کو چومنا،
سے دوستی کرنا۔اَلغَفَ: تیز نظر سے دیکھنا، چوروں کے
ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تیز دوڑنا ـــ فُلانًا الادامَ: کو سالن
کے لقمے دینا۔اللُغفَۃ: لقمہ۔اللَغِیف جمع لُغَفاء:
چوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا، ان کے کپڑوں کی
حفاظت کرنے والا مگر ان کے ساتھ چوری نہ کرنے
والا، آدمی کے خاص لوگ۔اللَغِیفَۃ: ایک قسم کا کھانا۔
المُلغَفَۃ: چوروں کا گروہ۔

۲ لَغَفَ ہٗ: سے برا سلوک کرنا، اور اس پر ظلم کرنا ـــ
علیہ: سے بہت گندی باتیں کرنا۔

۳ اللَغلَغَۃ: کلام میں لکنت۔

لغم: لَغَمَ ـلَغمًا البعیرُ: اونٹ کا جھاگ ڈالنا۔
ہٗ: کا منہ ناک اور اردگرد چومنا ـــ و لَغَمَ فُلانًا
بالطیب: کے منہ ناک پر اور اردگرد خوشبو لگانا۔تَلَغَّم
بالطیب: اپنے ناک منہ اور اردگرد خوشبو لگانا ـــ
القوم بالکلام: بات کرتے ہوئے اپنے مونہوں،
ناکوں اور اردگرد کو حرکت دینا۔ـت الغَنَمُ بالعشب
و الشراب: بھیڑ بکریوں کا تر ہونٹوں والی ہونا (گھاس
پانی سے)۔المَلغَم: تھوڑی سی خوشبو، زبان کی رگیں۔
اللُغام: اونٹوں کے مونہوں کی جھاگ۔لعاب (دہن)۔
اللَغماء: سفید منہ والی بکری۔المَلغَم جمع
مَلاغِم: منہ ناک اور ان کا اردگرد۔

○ لَغَمَ ہٗ: میں سرنگ لگانا، بارودی سرنگیں بچھانا۔لُغم
و لَغَم جمع اَلغام: سرنگ (بارودی)۔لُغم و الغام:
سرنگیں بچھانا۔المُلغَم: پارہ کے ساتھ آمیزش کرنا۔
لُغام: جھاگ، کف۔اِلتِغام: امتزاج، آمیزش۔

۲ لَغَم ـلَغمًا الرجُلَ: یقینی خبر نہ دینا۔لَغِمَ ـلَغمًا و
لَغَمًا: کے متعلق غیر یقینی خبر دریافت کرنا۔اللَغِیم:
راز، بھید۔

۳ لَغَم ـلَغمًا الارضَ او الحجرَ: زمین یا پتھر میں
سرنگیں بچھانا۔اللُغم جمع اَلغام: بارودی سرنگ، چھوٹا
سا گڑھا جس میں بارود یا ڈائنامیٹ رکھا جاتا ہے جو
پھٹ کر اس جگہ کو جسے اڑانا مقصود ہوتا ہے تباہ کر دیتا
ہے۔اللُغمُ الصوتی: بارودی سرنگ جس کے
ساتھ آواز ریکارڈ کرنے کا آلہ ہوتا ہے، اور جب کوئی
بحری جہاز اس کے قریب آئے تو وہ اسے بھک سے اڑا
دیتی ہے۔لُغمُ الضغط: دباؤ کی بارودی سرنگ، جو
پانی کے دباؤ سے پھٹ جاتی ہے، جسے گزرتے وقت
بحری جہاز پیدا کرتا ہے۔

۴ اُلغِمَ الذهبُ و ماشابهه من کل جوهر مذاب:
سونے وغیرہ کی پارہ میں آمیزش کیا جانا۔صفت
مُلغَم۔اِلتَغَمَ الذهبُ: پارہ سے مخلوط ہونا۔

لغن: اِلغَانَّ النبتُ: نباتات کا گنجان و دراز ہونا ـــ ـتِ
الارضُ: زمین کا بہت گھاس والی ہونا۔اللُغُن:
جوانی کا جوش۔

لغو: اللَغَا یلغو لَغوًا بکذا: کچھ بولنا۔لَغِیَ یَلغَی
لَغًی بالامر: کا شوقین ہونا ـــ ت الطیرُ
باصواتها: پرندوں کا گانا۔اِستَلغَی فلانًا: سے
گفتگو کرانا، اسکی زبان سننا۔اللَغَا (مص): آواز۔
اللُغَۃ جمع لُغًی و لُغات و لُغون: ہر قوم کا اپنا مصطلح
کلام، بولی، زبان، نسبت کی صورت میں لُغَوِی ۔
علم اللُغة: مفردات کی حالتوں کو جاننے کا علم۔
عِلمُ اللُغة کا اطلاق علوم عربیہ کی تمام قسموں پر بھی
کیا جاتا ہے۔کُتُب اللُغَۃ: لغت کی کتابیں، جنہیں
معجمات و قوامیس بھی کہا جاتا ہے۔معجمات کا واحد معجم اور
قوامیس کا واحد قاموس ہے، ڈکشنریاں۔اهلُ اللُغَۃ:
اہل زبان، شاید لُغَۃ کا لفظ لوغوس سے ماخوذ ہے جس
کے معنی کلمہ یعنی لفظ ہے۔اللُغو: کتے کا بھونکنا۔اللَغَاۃ:
آواز۔اللُغوٰی: قطا کا شور۔

۲ لَغَا یَلغُو لَغوًا الشیءُ: چیز کا باطل ہونا۔الرجُلُ:
ناکام ہونا۔عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔
لَغوًا و لَغَا یَلغَی لَغوًا و لَغِیَ یَلغَی لَغًی و لَغَایَۃً
و لاغِیَۃً و مَلغاۃً فی قوله: میں غلطی کرنا، بے سوچے
سمجھے بولنا۔کہا جاتا ہے هُم یَلغُون فی الحساب:
وہ حساب میں غلطی کرتے ہیں۔لاغَی مُلاغاۃً
الرجلَ: سے مذاق کرنا۔اَلغَی الشیءَ: کو باطل
کرنا، کو کالعدم کرنا ـــ فُلانًا: کو محروم کرنا، کو ناکام
بنانا، کو مایوس کرنا۔اللاغِیۃ (مص): بیہودہ کلام،
جس پر بھروسہ نہ کیا جائے۔کَلِمَۃٌ لاغیۃ: قبیح کلمہ۔
اللَغَا: بے کار، ناکارہ، فضول چیز، بات وغیرہ جس پر
بھروسہ نہ کیا جائے۔اللَغو: کلام وغیرہ جس پر بھروسہ
نہ کیا جائے۔(کہا جاتا ہے تَکَلَّم اللغو و اِشتَغَل
باللغو: اس نے ناقابل اعتبار بات کی اور وہ ناقابل
اعتبار کاموں میں مشغول ہوا) حلف میں گناہ۔
اللَغوٰی: ناقابل اعتبار بات وغیرہ۔کہا جاتا ہے:
اِسمَعْ لَغواهم و لا تخف طَغواهُم: ان کی
ناقابل اعتبار باتیں سنو اور ان کے حد سے تجاوز سے نہ
ڈرو۔

۳ لَغِیَ یَلغَی لَغًی بالماء: بہت پانی پی کر بھی سیر نہ
ہونا۔بالشیء: کے ساتھ رہنا، جدا نہ ہونا۔

○ لغا ـلَغوًا: کہنا، بولنا۔لغا ـلَغوًا و لَغِیَ ـلَغًا و
لاغِیۃً و مَلغاۃً: بیہودہ گوئی کرنا، بات کرتے ہوئے
غلطیاں کرنا۔اَلغَی ہٗ: کو بے اثر کرنا، کو غیر مؤثر کرنا،
کو کالعدم قرار دینا، کو منسوخ کرنا، ختم کرنا، کو خارج
کرنا، کو موقوف کرنا، (اجازت قرارداد وغیرہ) واپس
لینا۔لَغو: بیہودگی، حماقت، احمقانہ گفتگو، احمقانہ
باتیں، کالعدم، غیر نافذ، غیر مؤثر، غلطی، قواعد صرف و
نحو کے خلاف زبان۔لُغَۃ جمع لُغات: زبان، (کسی
علاقہ یا جماعت کی) خاص بولی، بولی، محاورہ، ملکی
زبان، عجیب زبان، غلط ملط بولی، کرخنداروں
(وغیرہ) کی بولی (مخصوص پیشے کی) بولی۔لفظ، اظہار،
بیان، اصطلاح۔اللُغة: معیاری، مستند یا ٹکسالی
عربی لُغَۃ اجنبیۃ: غیر ملکی زبان لُغۃ عامیۃ:
عوامی زبان لُغۃ الکتابۃ: کتابی یا ادبی زبان لُغۃ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المُحادثة: عامیانہ یاعام بول چال کی زبان۔لُغَةُ المِهْنَة: پیشہ ورانہ بولی، بازاری بولی۔لُغَةُ المَوَلِّد. مادری زبان۔اهلُ اللُغَة ماہر لسانیات، لغت نویس۔علمُ اللُغَة: لغت نویسی، لسانیات، زبان دانی سے متعلق علم، زبان دانی۔لغوة (کسی علاقے یا جماعت کی) خاص بولی، بولی، محاورہ، ملکی زبان۔لغوی: زبان دانی سے متعلق، لسانیاتی، لغت نویسی سے متعلق، ماہر لسانیات، لغت نویس، ماہر السنہ۔لُغویات: زبان کے معاملات۔الغاء: خاتمہ، انسداد، منسوخی، تنسیخ، اخراج، کالعدم قرار دینا، منسوخ کرنا، تنسیخ حکم دینا۔لاغٍ: منسوخ، کالعدم، غیر موثر، قانونا بے ضابطہ یا بے اثر۔لاحن: قواعد زبان کی غلطی، غیر صحیح الفاظ کا استعمال۔ملغي: منسوخ، کالعدم، قانونا بے ضابطہ یا بے اثر، جس کی مدت ختم ہوگئی ہو، ممنوعہ، ناقابل ذکر۔برائے نام، یونہی سا، بہت چھوٹا۔

لف: الملفّ۔لفّا الشیء: کو لپیٹنا، شامل کرنا، جمع کرنا۔......المیتَ فی اکفانہ: میت کو کفن میں لپیٹنا۔۔۔الکتیبتین: جنگ میں لشکر کے دو دستوں کو ملانا۔۔۔فی الأکل: تمام قسم کی خوراک ملا لینا۔اِن اکلَ لفَّ و ان شرب اِشتَفّ: وہ کھانے لگے تو تمام قسم کھانے ملا لے گا پینے لگے تو برتن کا سارا پانی پی لے گا۔۔۔الشیء بالشیء: چیز کو چیز سے ملانا جوڑنا۔۔۔ت الاشجار: درختوں کا گنجان ہونا۔۔۔اللفة: پگڑی لپیٹنا (عوامی زبان میں)۔......لفًّا و لَفَفًا: پُر گوشت رانوں والا ہونا صفت اَلَفّ م لَفّاء جمع لُفٌّ۔لَفَّفَ: بمعنی لَفَّ. تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔یعنی خوب لپیٹنا۔لافّ الصقرُ الصیدَ: شکرے کا شکار پر جھپٹ پڑنا اور اسے پاؤں کے نیچے دبوچ لینا۔کہا جاتا ہے: لافَفْنا القومَ ہم لوگوں میں گھل مل گئے۔اَلَفَّ الطائرُ رأسَهُ پرندے کا اپنے سر کو بازوؤں میں کر لینا۔۔۔الرجلُ رأسه: اپنے سر کو جبہ میں چھپا لینا۔تلفّف فی ثوبه: کپڑے میں لپٹنا۔۔۔علیه القوم: قوم کا کسی پر جمع ہونا۔تلافّ القومُ: آپس میں ملنا۔اِلتفّ فی ثوبه: کپڑے میں لپٹنا۔......علیه القومُ. قوم کا کسی پر جمع ہونا۔تلافّ القومُ. آپس میں ملنا۔اِلتَفّ فی توبه: کپڑے میں لپٹنا۔علیه القومُ: قوم کا کسی پر جمع ہونا۔الشیءُ: اکٹھا اور گاڑھا ہونا۔۔۔النباتُ: نباتات کا گنجان اور گھنا ہوا۔۔۔لهُ علی حنقٍ: سے غضبناک ہو کر لپٹنا۔اللَفّ (مص): کہا جاتا ہے: جاؤوا بلفّهم: وہ ملے جلے لوگوں کے ساتھ آئے۔جاء القومُ و من لفَّ لَفَّهُم: لوگ اور وہ افراد آئے جن کا ان سے تعلق ہے یا ان میں شمار ہوتے ہیں۔روضةٌ لَفٌّ: گنجان درختوں والا، کنج۔اللِفّ جمع اَلفاف و لُفوف: پارٹی یا گروہ جمع شدہ لوگ۔ادھر ادھر سے جمع کیا ہوا، گنجان باغ۔روضةٌ لِفٌّ و لِفّةٌ: گنجان درختوں والا کنج، کہا جاتا ہے جاءَ القوم و من لفّ لِفَهُم او لُفَّهُم: وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آئے۔جاؤوا اَلفافًا: وہ مخلوط گروہ کی شکل میں آئے۔اللَفَّة: پگڑی (عوام کی زبان میں)۔روضة لفّة: گھنے پودوں والا باغیچہ۔اللَفَف: پٹھے کا مروڑ یا کھچاؤ، زیادہ اور ملا جلا کھانا کھانا، ادھر ادھر سے جمع کی ہوئی چیز۔اللِفافة جمع لَفائف. لپیٹنے کی چیز، دل کی اوپر کی چربی، سگرٹ۔اللفیف: جھنڈ دار اور گھنے درخت، مخلوط لوگوں کا گروہ عظیم۔طعامٌ لَفیف. مخلوط کھانا۔کہا جاتا ہے هو لفیفُ فُلان: وہ فلاں شخص کا دوست ہے۔جمع لُفُفٌ: ہجوم، انبوہ۔جاء القومُ بلفیفهم: لوگوں اپنے آدمیوں کے ساتھ آئے جن میں مختلف قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔......جمع الفاف: فوجی دستوں کا مجموعہ۔اللَفیفة جمع لَفائف: مجموعہ، سگرٹ، اونٹ کی پیٹھ کا گوشت۔الألَفّ م لفّاء جمع لُفّ: لوگوں سے بھری ہوئی جگہ، کلائی کی ایک رگ، صاف گفتگو نہ کر سکنے والا، کام میں سست، ملے ہوئے ابروؤں والا۔روضة لَفّاء: گھنے پودوں کا کنج۔فخذٌ لَفّاء: پُرگوشت ران یا ٹانگ۔التلافیف: گنجان گھاس......من الامعاء و الدماغ (طب). چکردار آنتیں یا انتڑیاں۔المَلَفّ: مصدر میمی، دعوی کی دستاویزات کی فائل، مسل (File)۔المِلَفّ. لحاف، کمبل، اوڑھنے کی چیز......فی اصطلاح علماء الکهربانیة. کوئل (coil)، کنڈل، لچھا، انٹی، ڈور کا گولہ، بجلی کا تار، لپٹی ہوئی سلاخ، پھرکی، چرخی۔المِلفاف. لحاف، لپیٹنے کی چیز، کمبل۔المَلفوف واحد مَلفوفة (ن): کرم کلہ، گوبھی۔

۲۔لَفَّ۔لَفًّا هُ حقّهُ: کا حق روکنا۔

۳۔لَفلَفَ گفتگو میں ہکلانا، گفتگو میں درماندہ ہونا، خوب اچھی طرح کھانا......فی ثوبه: کپڑے میں لپٹنا۔......القضیّة: مقدمہ پر غور کرتے ہوئے اسے پوشیدہ رکھنے اور اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم دینا۔تلعفلف بثوبه. کپڑے میں لپٹنا۔اللَفلَف و اللَفلاف. کمزور......و المُلفلف کلام میں عاجز و درماندہ

◯ لَفَّ۔لَفًّا هُ: کو لپیٹنا، تہہ کرنا، کو چکر دینا، لچھا بنانا، کنڈل بنانا، پرتا گا لپیٹنا۔۔۔هُ علی: کو پر لپیٹنا، کو چرخ پر لپیٹنا۔هُ حول: کو کے گرد لپیٹنا، کو کے گرد بل دینا۔هُ فی/ب: کو میں بند کرنا، کو کے ساتھ ملفوف کرنا، کو سے ڈھکنا، کو سے باندھنا، کو میں لپیٹنا۔۔۔هُ ب: کو سے جوڑنا، ملانا، کو کے ساتھ نتھی کرنا۔۔: گھنا ہونا، ڈھک جانا، پھنسا ہوا، انبوہ کثیر بنانا۔۔۔علی: سے مسلسل ملاقاتیں کرنا، کے چکر لگانا، کے پاس جانا۔۔۔هُ: کوئی کام کرنے لگنا، ادھر ادھر سے، پھیرا لگانا، ٹامک ٹوئیاں مارنا، اصل معاملہ سے دور رہنا، بات اڑا دینا۔لَفَّ لَفَّهُ: بالکل دوسرے کی طرح کرنا، اسی قسم کا ہونا، اسی قسم سے متعلق ہونا۔لَفَّفَ: مضبوطی سے لپٹنا۔تلفّف فی: میں لپٹنا، خود کو سے ڈھک لینا، اِلتَفّ. بمعنی تلفف۔نیز اِلتَفّ: لپٹنا، تہ ہونا، چکر کھانا، گھومنا، بل کھانا، بل کھاتے ہوئے چلنا، (گاڑی وغیرہ) کا موڑ مڑنا، مڑنا۔۔۔حول: کے گرد جمع ہونا۔۔۔ب: کو بکسوا لگانا، آنکڑا لگانا، بند کرنا، پکڑنا، کو لفافے میں بند کرنا، کا احاطہ کرنا، کو حلقے میں لینا، کو گھیرنا، کا محاصرہ کرنا، کو شوق سے قبول کرنا، کو آغوش میں لینا۔لَفّ: چکر دار، کنڈلی دار، پیچدار، لچھے دار، لپیٹنا، تہہ کرنا، جل، پھندا، جھانسا، چکر، حیلہ، بہانہ، ٹالنے کی ترکیب، داؤ، پیچ، چال، عذر، معذرتیں، اعتذرات جمع لُفاف. پیٹنے یا باندھنے کے کپڑے، اَللَفّ و الدَوَرانُ: پھیرے اور حیلے بہانے۔لف و نشر: تہہ کرنا اور کھولنا، پیچیدگی اور ارتقاء (مبالغہ آمیز تحریر یا تقریر میں)۔من غیر لف: خرابی بسیار کے بغیر، کسی تقریب کے بغیر۔لِف جمع لُفاف: گھنے اور گنجاں درخت۔الُفاف: درختوں کا جھنڈ، جھاڑ جھنکاڑ، بڑے درختوں کے سایہ میں اگی ہوئی جھاڑیاں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، چھوٹی چھوٹی زیر درختی۔لَفّة جمع لَفّات: موڑ، دور، گردش، چکر، دوری حرکت، کنڈل، پیچ، پیچا، برقی تار کا لچھا، ڈوری، رسی، دھاگا، بل دار تمباکو، پتوں کا گچھا جو ایک ہی جگہ سے پھوٹے۔کمانی، کسی چکر دار چیز کا پیچ، لپیٹنا، لپٹا ہوا بنڈل، کاغذ کا پلندہ، گولا، لڑھکاؤ، گردش، چکر، لپٹا ہوا کاغذ، گٹھری، بقچہ، پوٹ، چھوٹی گٹھری، گڈی، بنڈل، بکس، ڈبہ، رسی یا لوہے کی پٹیوں سے بندھی ہوئی گانٹھ (bale)، پگڑی۔لفةٌ بَرِیدیَة: پارسل (postal package)۔لفات مِنَ الرَقّ: جھلی نما کاغذ کے پلندے۔لِفَافة جمع لفافات و لفائف: لپیٹنے کا کاغذ وغیرہ، غلاف سرپوش، ڈھکنا، لفافہ، پوشش، میز پوش،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خوان پوش، کتاب کا گرد پوش، لپیٹنے کے کپڑے، قربان گاہ کا غلاف، جام اور سینی پوش، زخم پر باندھنے کی پٹی، فیتہ، تسمہ، ڈوری (باندھنے کی)، پنڈلیوں پر لپیٹنے کی پٹی، سگریٹ، لفافة من التبغ: سگریٹ۔ جمع لفائف: کسی چیز کی وضع قطع (مجازاً)، لفیف: جمع مثرد، اکٹھے ہونے والے، پرہجوم، ٹھٹ لگانے والا، بھیڑ ہجوم، ازدحام، کثرت، افراط، جماعت، فوج، گروہ، جمعیت، اکثریت، جم غفیر (من لوگوں کا) ملے جلا جمع لَفِیفُ الناس: بھیڑ، ازدحام، جم غفیر، بے ترتیب مجمع، رذیلوں کی ٹولی، نیچ ذات کے لوگ، گنوار تیل تولی، عوام، عوام الناس۔ اللفیف الاجنبی: غیرملکیوں کی بہت بڑی تعداد۔ لَفِیفة: بنڈل، پیکج، پیکٹ، پیک، سگرٹ۔ اَلَفّ م لَفّاء: مضبوط، قوی، فربہ، جسیم۔ مِلَفّ جمع مِلَفّات: ریل (reel)، پھرکی، چرخی، برقی تار کا گچھا، فائل، مسل، لفافہ، کتاب وغیرہ کا گرد پوش، کمبل، لپیٹنے کا کاغذ۔ مِلَفُّ التاثیر: Induction coil۔ ملف ابتدائی: پرائمری کوئل، ملف خانق: چوکنگ کوائل choking coil۔ چوک choke۔ مِلفاف: لپیٹنے والا، ڈھکنے والا، پوش، پوشش، کور (cover)۔ تلفیف: لپیٹنا، کوئل (coil)، پتوں کا گچھا جو ایک ہی جگہ تنے سے پھوٹے، کمانی، کسی چکردار چیز کا پیچ، لپیٹ، پیچ۔ فی تلافیف سویدائها: اس (عورت کے) دل کی گہرائی میں۔ فی تلافیف الظلام: تاریکی میں۔ بین تلافیفه: اس میں، اس کے اندر، اس میں ارد گرد۔ التفاف: موڑ کی کترانا، (شہر وغیرہ کا) چکر کاٹ کر جانا (دشمن فوج کے پہلوؤں تک پھیل جانا، میمنہ یا میسرہ کے طرف حرکت، محاصرہ، گھیرا۔

لفا: لَفا ـُ لَفا و لَفا العودَ: لکڑی چھیلنا۔ اللحم عن العظم: ہڈی پر سے گوشت اتارنا۔ ۔ ہُ: کی غیبت کرنا۔ ـ ہُ حقه: کو حق سے کم دینا، کا حق کھانا، کو اس کا پورا پورا حق دینا (ضد)۔ ...تِ الریحُ السحاب عن وجه الارض: ہوا کا بادلوں کو پراگندہ کرنا۔ اِلتَفَا العودَ: لکڑی کو چھیلنا۔ اللفاء: مٹی، تھوڑی چیز، حق سے کم۔ اللَفِیئة جمع لَفیا و لَفِیء: بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا۔

۲۔ لَفا ـُ لَفا و لَفاءُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا ـ فلانا عن مراده: کو اس کی مراد سے ہٹانا۔

۳۔ لَفِیَ ـَ لَفاً الشیءُ: چیز کا باقی رہنا۔ اَلفَی اِلفاءً الشیءَ: چیز کو باقی رکھنا۔

لفت: ۱۔ لَفَتَ ـِ لَفتا الشیءَ: کو دائیں بائیں موڑنا۔ ...فلانا عن رأیه: کو اس کی رائے سے دور کرنا۔ ...اللحاء عن الشجر: درخت سے چھال اتارنا۔ ـــ رداءَهُ عن عُنقه: چادر کو گردن پر موڑنا۔ ...الریشَ علی السهم: تیر پر پر غیر مناسب جگہ لگانا۔ ـــ الراعی الماشیةَ: چرواہے کا مویشی کو بے پرواہی سے مارنا۔ ـ الکلامَ: لاپرواہی سے گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ لَفَتَهُ بکذا: اس نے اس کو کوئی چیز دی۔ لَفَتَ الشیءَ: کو موڑنا۔ تَلَفَّتَ الیه: کی طرف رخ پھیرنا۔ التفت الیه: کی طرف چہرہ پھیرنا ـــ بوجهه یمنةً و یسرةً: چہرے کو دائیں یا بائیں جھکانا۔ لا تَلْتَفِتْ لِفتَ فلان: کی طرف نہ دیکھ۔ اللِفت: بے وقوف عورت۔ (ج) گائے۔ کسی چیز کا نصف یا پہلو۔ لِفتهُ معه: اس کا رجحان اس کے ساتھ ہے۔ اللَفت فی التیس: مینڈھے کی سینگ کی خمیدگی۔ ...فی الانسان: کھبچو پن۔ اللفتة: ہمیشہ مویشیوں کو مارتے رہنے والا گڈریا۔ اللفات: سخت خو بے وقوف۔ الألفت م لَفتاء جمع لُفتٌ: بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا، بے وقوف، مینڈھا جس کا ایک سینگ پیچ دار ہو، مضبوط ہاتھ والا، بھینگا۔ اللفوت: سخت خو، سخت مزاج، چغل خور عورت، وہ عورت جس کی نظر ایک جگہ نہ رکے، دودھ دوہتے وقت بے چین ہونے والی اونٹنی۔ اللَفِیتَة: ایک قسم کا گاڑھا حلوا۔ المُلتفتة: کندھے کی ہڈی کا بالائی حصہ۔

۲۔ اللِفت (ن): شلغم۔

۞ لَفَتَ ـِ لَفتا و اَلفَتَ هُ الی: کو کی طرف موڑنا، جھکانا، مائل کرنا، کا رخ کی طرف کرنا، کو پر مرکوز کرنا۔ ہ عن: کو سے موڑنا، پھیرنا، دور کرنا، ہٹانا۔ لفت نظرَہ الی و اَلفَتَ نظرَہ الی: اپنی نگاہ کی طرف موڑنا، اپنی توجہ کی طرف کرنا، اپنی نگاہ کی طرف کرنا، کی توجہ کی طرف مبذول کرنا۔ لَفتَ النظرَ: توجہ کھینچنا، پراثر، موثر، دلنشیں، پرشکوہ، شاندار، مرعوب کن یا رعب دار ہونا۔ اَلفَتَ النظر بمعنی لَفَتَ النظرَ۔ لفتَ الناسَ: لوگوں کو متوجہ کرنا، گرویدہ کرنا، کشش کرنا، کھینچنا، راغب کرنا یا ان کا دل موہ لینا اور ان میں دلچسپی پیدا کرنا۔ تلفتَ اِلی: کی طرف مڑنا، کی طرف اپنا منہ کرنا۔ تَلَفَّتَ حوله: اپنے ارد گرد دیکھنا، چاروں طرف دیکھنا۔ تَلَفَّتَ یمنةً و یسرةً: اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ اِلتَفَتَ اِلی: کی طرف مڑنا، اپنا چہرہ کی طرف کرنا، کی طرف متوجہ ہونا، کی طرف التفات کرنا، دھیان کرنا، توجہ کرنا، کو دیکھنا، کو خاطر میں لانا، کو اہمیت دینا، کا خیال رکھنا، کی بہبودی یا برتری کے لئے کوشاں ہونا۔ التفت حوله: چاروں طرف دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا۔ اِستَلفَتَ هُ: نگاہوں، توجہ کو کھینچنا۔ ...هُ ـــ: کی دلچسپی/توجہ بیدار کرنا۔ اِستَلفَتَ نظره یا انظاره: کی توجہ کھینچنا، سے نظریں چار ہونا۔ بدون الالتفات: بے توجہی سے۔ بدون الالتفات الی: کا لحاظ نہ کرنے والا، کا پاس کئے بغیر۔ عدم الالتفات: بے توجہی، تغافل، لاپروائی، بے رخی، بے اعتنائی۔ نظر الیه بعین الالتفات: پر ہمدردانہ غور کرنا۔ لافِتة: سائن بورڈ۔ مُلفِتُ النظر: توجہ کھینچنے والا، جاذب توجہ، ظاہر، عیاں، صریح، واضح۔ مُلتَفِت: احترام کرنے والا، متوجہ، ہوشیار محتاط، بامروت، بالحاظ، دوسروں کا خیال رکھنے والا۔ ...الی: کی طرف دیکھنے والا۔

لفج: اَلفَجَ: کا مال جاتا رہنا، مفلس ہو جانا، دیوالیہ ہو جانا، غم وغیرہ کی وجہ سے زمین سے چمٹنا ـــ فلانا: کو محتاج بنانا، مجبور کرنا۔ اللَفج: ذلت۔ المُلفَج: مفلس، لاغری سے زمین سے چمٹنے والا۔ المُستلفَج: مفلس، لاغری کی وجہ سے، زمین سے چمٹنے والا، دیوالیہ، ڈر کے مارے بے دل ہو جانے والا۔

لفح: لَفَحَ ـَ لَفحا فلانا بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ ...لَفحًا و لَفَحانًا تِ النارُ او السموم بحرّها فلانًا: آگ یا بادِ سموم کا کسی کے چہرے کو جھلس دینا۔ نار لافحٌ و لفوحٌ: جھلسانے، جلانے والی آگ۔ کہا جاتا ہے۔ اصابه من الحر لَفحٌ و من البرد نفحٌ۔ اللفح: گرم ہوا کا جھونکا۔ النفح: ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ اللُفّاح واحد لفاحة (ن): ایک قسم کا پودا۔

۞ لَفَحَ ـَ لَفحاً و لَفَحانًا ہُ/ ہ: کو جلانا، جھلسنا، داغنا۔ ـــ ہ: کو ہلکے سے مارنا، چھونا یا صاف کرنا یا جھاڑنا (سانس کا)۔ لَفحة جمع لَفحات: آگ، حرارت (خصوصاً بخار کی)۔ لَفوح و لافح جمع لَوافِح: جلانے والا، جھلنے والا، داغنے والا۔ لُفّاح: ایک زہریلا پودا۔

لفخ: لَفَخَ ـَ لَفخاً هُ فی او علی رأسه: کو سر میں یا سر پر ضرب لگانا۔ اللفخ (مص): پورے سر یا سارے سر پر مارنا۔

لفظ: لَفَظَ ـِ و لَفِظَ ـَ لَفظاً الشیءَ و بالشیء من فمه: کو منہ سے پھینکنا۔ صفت مفعولی لَفیظ و مَلفوظ: منہ سے پھینکی ہوئی (چیز) ـــ بالکلام: بات بولنا۔ ـــ فلانٌ نفسَهُ او عَصَبَهُ: مرنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عـصـبـتُـهٗ: کا تھوک یا لعاب دہن جو منہ میں خشک ہو جائے)۔ البـحـرُ دابَّۃً: سمندر کا جانور کو کنارے پر پھینک دینا۔ کہا جاتا ہے لَفظتْ إلینا البلادُ أھلَھا: ملک نے اپنے باشندوں کو ہماری طرف نکال دیا۔ جاءَ و قـد لـفظ لجامَہٗ: وہ پیاس اور تھکن سے چور ہو کر آیا۔ تَـلَـفَّـظَ بـالـکلام: بولنا، بات منہ سے نکالنا۔ اللافِـظَة: لافِـظ کا مؤنث، سمندر، چکی، دنیا۔ لافِظَةُ (علم اور مؤنث ہونے کی وجہ سے غیر منصرف): سمندر۔ اللَّـفـظ (مص) جمع اَلفـاظ: لفظ، کلام۔ اللَّفظَة جمع لَفَظات: لفظ کا اسم مرۃ۔ کلمہ جو منہ سے بولا جائے، اس لئے باپ بیٹے اور روح القدس کی دوسری ذات کے متعلق لفظۃ اللّٰہ نہیں کہا جاتا بلکہ کـلـمة اللّٰه کہا جاتا ہے۔ اللَّـفـظِیّ: لفظ سے متعلق، لفظی۔ اللِفاط: سبزی۔ اللُّفاظة: پھینکا ہوا، منہ سے نکالی ہوئی بات — و — جمع لُفاظ و لُفاظات: منہ سے پھینکی ہوئی چیز، دسترخوان سے جھاڑی ہوئی چیز، کسی چیز کا تھوڑا سا بقیہ۔ اللَّفِیظ: پھینکی ہوئی چیز۔

○ لَفظ ـلَفْظًا ہ/ب: کو نکالنا، چھوڑنا — ہ/ب: کو تھوکنا، نکالنا — ہ من: کو سے باہر پھینکنا۔ لَـفَظ: بولنا، اعلان کرنا، ٹھہر ٹھہر کر بولنا، صاف تلفظ سے بولنا۔ — ہ/ب: کا تلفظ کرنا، کہنا، بولنا، کا اظہار کرنا۔ لفظ النفسَ الاخیرَ: مرنا، آخری سانس لینا، حالت نزع میں ہونا۔ لفظ انفاسه: مرنا۔ لفظ النواۃ: کو مسترد کرنا، کو ایک طرف کر دینا۔ تَلَفَّظ ب: کا تلفظ کرنا، کا اعلان کرنا، کو وضاحت سے پیش کرنا۔ لَـفـظ جمع اَلـفـاظ: لفظ، صوتی مرکب، اظہار، اصطلاح، اظہار مفہوم کے لئے الفاظ کا استعمال، انتخاب الفاظ، تشکیل، صاف تلفظ، تلفظ، ادائیگی، اعلان۔ لفظًا: لفظ بہ لفظ، لفظی۔ لـفـظًا و معنی: الفاظ اور حقیقی مقصد دونوں میں۔ اَخـطـأ الـلَّفظ: غلط تلفظ کرنا، تلفظ میں غلطی کرنا۔ لَفظَة جمع لَفَظات: لفظ۔ کہی ہوئی بات، کہنا۔ لَـفِـیظ: نکالا ہوا، چھوڑا ہوا، ظاہر کیا ہوا، تلفظ کیا ہوا، زبان سے نکالا ہوا۔ مَلفوظ: بمعنی لفیظ۔

لفع: ا۔لَـفـع ـلَفعًا تہُ النارُ: تک آگ کا شعلہ پہنچنا۔ الشیبُ رأسَہٗ: بالوں کی سفیدی کا پورے سر کو ڈھانپ لینا۔ لَـفَّـع: بمعنی لفع۔ — الغلامَ: جوان کو بغل گیر کرنا۔ کہا جاتا ہے لَـفَّـع رأسَہٗ: اس نے اس کے سر کو ڈھانپ لیا۔ تَلفَّع: سفید سر ہونا۔ .... ـتِ النارُ: آگ کا بھڑکنا — ت الحروبُ بالشر: جنگ کا سب کو گھیر لینا۔ — القومُ علی جیشِ العدو: دشمن کی فوج کو گھیر لینا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ — الـرجُـلُ بالثوب و الشجرُ بالورق: آدمی کا کپڑے سے اور درختوں کا پتوں سے ڈھکنا۔ اِلْـتَـفَـعَ الـرجُـلُ بـالثـوب و الشجـرُ بـالورق: آدمی کا کپڑے سے اور درختوں کا پتوں سے ڈھکنا — ـت الارضُ: زمین کا سبزہ سے ڈھک جانا۔ اُلْتُفِعَ لونُہٗ: کا رنگ بدل جانا۔ اللِفـاع: چادر یا کمبل، اونٹنی کے اگلے تھن۔ اللِفـاعَة و اللفِیعَة: کرتے کا پیوند۔ التَّـلـفِـیـعَة: مفلر یا شال جو سردی میں گردن کے گرد لپیٹی جاتی ہے۔ المِلفَعة: چادر، کمبل وغیرہ، مفلر۔

٢۔لُفِع فلانٌ: بہت کھا جانا۔ تَـلفّع المال: مویشیوں کو چرنے سے نفع پہنچانا۔

○ لَفَّع ہ ب: کو سے ڈھکنا۔ تَـلَـفَّـع و التَفَع ب: میں لپٹنا۔ مِـلْـفَـع: سر کی شال، مفلر، گلوبند، گلو پوش رومال۔

لفق: ا۔لَـفَـقَ ـلَـفقًا الثوبَ: کپڑے کو دوہرا کر کے سینا۔ لَـفَّقَ الحدیثَ: کلام کو جھوٹ سے مزین کرنا۔ — الشقتین: دونوں سرے ملا کر سینا۔ کہا جاتا ہے: لَـفَّقَ بین الثوبین: اس نے دو کپڑوں کو جوڑ جاڑ کر ٹھیک کر لیا۔ تَـلَفَّقَ بہ: سے جا ملنا — مابینھم: کے درمیان معاملات کو درست کرنا۔ تَلافَقَ القومُ: کے معاملات کا درست ہونا۔ اللِـفـق: چادر کا ایک پاٹ۔ ھـمـا لِفقان: وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اللِفاق: دو ساتھ جوڑے ہوئے کپڑے، ان دونوں کپڑوں میں سے ہر ایک لِفاق کہلاتا ہے۔

٢۔لَفِقَ ـلَفَقًا الامرَ: کو طلب کرنا اور نہ پانا۔ الصقرُ: شکرے کا شکار پر چھوڑا جانا مگر شکار نہ کرنا۔ لَـفِـقَ الرجُلُ: مرد کا کوئی کام طلب کرنا اور نہ پانا۔ اللَّفاق: مقصد میں ناکام۔

○ لَفَّقَ ہ: کو گھڑنا، تراشنا، اختراع کرنا، کی تدبیر کرنا، پر غور کر کے انتظام کرنا، میں جعلسازی کرنا، کو جھوٹا بنانا۔ — ہ الی: کو سے پیوند لگانا، کو سے جوڑنا۔ تَـلفِیق: اختراع، ایجاد، جعلسازی، جھوٹ، بناوٹ، بناوٹی بات، جھوٹ موٹ کہنا۔ تَـلفِـیـقَة: اختراع کی ہوئی کہانی، بے ضرر جھوٹ، گپ، من گھڑت قصہ۔ مُـلَـفَّق: اختراع کیا ہوا، گھڑا ہوا، جھوٹا بنایا ہوا، بناوٹی، مصنوعی، نقلی، جعلی، گھڑا ہوا، تراشا ہوا، غیر حقیقی، جتن کیا ہوا، ترکیب نکالا ہوا، پیوند کیا ہوا، جوڑا ہوا، جھوٹی باتوں سے مزین کیا ہوا۔

لفک: اللَّـفِیک: بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا — والاَلْفَک

لفم: لَفَمَ ـلَفمًا تِ المرأۃُ: عورت کا ناک پر نقاب باندھنا — المرأۃ فاھا: عورت کا اپنے منہ پر نقاب ڈالنا — ہٗ: کو مضبوط باندھنا۔ تَـلَـفَّـمَـت المرأۃُ: عورت کا ناک پر نقاب باندھنا — بعمامته: پگڑی سے ڈھاٹا باندھنا۔ اِلْتَـفَـمـت المـرأۃُ: عورت کا ناک پر نقاب باندھنا۔ اللِفام: نقاب۔

لفو: ا۔لَـفَا یَلفُو لَفوًا اللحمَ عن العظم: گوشت کو ہڈی پر سے چھیلنا — فلانًا حقَّہٗ: کسی کے حق کو کم کرنا۔ اللَّفِیَّة جمع لَفایا: گوشت کا ٹکڑا۔ اللَّفاء: مٹی، خسیس، حقیر۔ کہا جاتا ہے رضی فلان من الوفاء باللفاء: فلاں شخص اپنے بہت سارے حق میں سے تھوڑے پر راضی ہو گیا۔

٢۔اَلْفَی اِلفاءً ہٗ: کو پانا۔ تَلافَی الامرَ: کا تدارک کرنا۔ التلافی: خون کا بدلہ لینا۔

○ اَلْفی ہ/ ہ: کو پانا۔ تَـلافَی ہ: کو ٹھیک کرنا، سیدھا کرنا، کی تلافی کرنا، کا نقصان پورا کرنا، کی تصحیح کرنا — ہ: (خطرہ) دور کرنا، کی تدبیر کرنا، کا چارہ کرنا، کا چارہ کار اختیار کرنا، اصلاح کرنا، (نقصان) کی تلافی کرنا۔

لق: ا۔لَقَّ ـلَقًّا عینَہٗ: کی آنکھ پر ہاتھ سے مارنا۔ صفت فاعل لاقٌّ جمع لَقَقَة۔ اللَّقَقَة: واحد لاقّ، لوگوں کی آنکھوں پر ہتھیلیوں سے مارنے والے۔

٢۔اللَّقّ: زمین کی دراڑ، شگاف، اونچی زمین، تنگ اور لمبی زمین، بہت باتونی۔ اللَـقَـقَـة: تنگ دہانوں والے گڑھے۔ کہا جاتا ہے رجُلٌ لقَّاقٌ بقَّاقٌ: بہت باتونی مرد۔

٣۔لَقلَقَ اللقلاقُ: سارس کا آواز نکالنا۔ ـت الحیّةُ: سانپ کا اپنی زبان نکالنا — الشیءَ: کو حرکت دینا۔ تَـلَـقلَقَ الشیءُ: ہلنا۔ اللَّقلَق جمع لَقالِق (ح): سارس، جس کی کنیت ابو خدیج ہے، زبان۔ اللَّقلَقَة: سارس کی آواز، حرکت اور اضطراب والی آواز۔ کہا جاتا ہے فی لسانه لَقلَقَة: اس کی زبان میں لکنت یا ہکلا پن ہے۔ حروف اللقلقة: ب، ج، د، ط، ق۔ اللقلاق (ح): سارس، آواز، شور و غل۔ طَـرفٌ مُلَقلَق: تیز نظر جو ایک جگہ نہ ٹھہرے۔

○ لَـقـلَـق و لَـقلاق جمع لَقالِق: سارس کی طرح کا ایک پرندہ، لقلق۔ لَـقـلَق: چخ چخ کرنا، بک بک کرنا، ہرزہ سرائی کرنا، چوں چوں کرنا۔

لقب: لَقَبَ فلانًا بکذا: کا کوئی لقب رکھنا۔ لَقَّبَ ہٗ: کو برے لقب سے گالی دینا۔ تَـلَـقَّب بکذا: کوئی لقب پانا۔ تَلاقب القومُ: ایک دوسرے کو برے القاب

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سے گالی دینا۔ اللَقَب جمع اَلقاب اصل نام کے علاوہ دوسرا نام جو اس کے معنی کے لحاظ سے مدح یا ذم معلوم ہوتا ہے۔

○ لـقـب ہ ب کیسکو کسی عرفی نام سے پکارنا، کا کوئی لقب رکھنا۔ تـلـقـب ب کا کوئی لقب ہونا۔ لَقَب جمع القاب لقب، عرفی نام، تعظیمی خطاب، خاندانی نام، آخری نام۔ لـقـبُ الـبُطو لة میر کھلاڑی کا خطاب۔ title of champion (insports)۔ مُلَقَب ب سے مُلقب۔

لقح ۱۔ لَقَحَ ۔لَقْحاً النخل نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور میں ڈالنا۔ لَقِحَ ۔لَقَحًا و لَقَحًا و لَقَاحاً ت الناقة و نحوُها: اونٹنی وغیرہ کا حاملہ ہونا۔ صفت لاَقِح و لَقُوح۔ ۔۔۔ لَقحاً ت المرأة او النخلة: عورت یا مادہ کھجور کے درخت کا حاملہ ہونا۔ ۔۔۔ ب الحرب لڑائی کا سکون کے بعد بھڑک اٹھنا۔ لَقَّحَ النخلة مادہ کھجور کے درخت کو بار آور کرنا۔ ۔۔۔ ہُ ط ب) کو ٹیکہ لگانا، کو ویکسین کا ٹیکہ لگانا۔ اَلْقَحَ النخلة نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور میں ڈالنا۔ ۔۔۔ الفحلُ الناقة نر اونٹ کا اونٹنی کو حاملہ کرنا، گابھن کرنا۔ صفت مفعولی: مَلْقُوحة جمع ملاقیح۔ ۔ تِ الريحُ الشجرَ او السحاب ہوا کا درختوں کو بار آور کرنا، بادل کو پھیلانا۔ ۔ بینهم شرّاً کے درمیان فساد ڈالنا۔ تلقّحت الناقة اونٹنی کا اپنے آپ کو حاملہ ظاہر کرنا لیکن درحقیقت حاملہ نہ ہونا۔ ۔۔۔ ت ۔۔۔ میں ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: تلقح زید علیّ زید نے میری طرف ایسے گناہ کی نسبت کی جو میں نے نہیں کیا۔ اِلْتَقَحَت الانثی: مادہ کا بار آور ہونا، حاملہ ہونا۔ اسْتَلْقَحَت النخلةُ: مادہ کھجور کے درخت کے بار آور ہونے کا وقت آنا۔ اللاقح جمع لواقح حاملہ ہونے والی اونٹنی۔ ریحٌ لاقح درختوں کو بار آور کرنے والی ہوا۔ اللَواقِح: حاملہ مادائیں۔ ۔۔۔ من الرياح بارش لانے والی ہوائیں۔ اللقح (مص) حاملہ ہونا۔ اللَّقاح (مص) نر کھجور کا شگوفہ جو مادہ کھجور میں ڈالا جائے، پھول کا زیرہ، زرگل، حمل، بار آوری، ثمر داری، ویکسین vaccine۔ نطفہ، مادہ منویہ، نر کا مادہ تولید۔ عِلمُ اللقاح علم نباتات کی ایک قسم، جس نے بہت ترقی کی ہے، اس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کس قسم کے پھولوں سے شہد نکالا جا سکتا ہے۔ اللقاح: لَقُوح کی جمع۔ نر گھوڑے اور نر اونٹ کا مادہ تولید۔ اللقحة جمع لقح و لقاح دودھ پلانے والی دایہ۔ ۔۔۔ واللَقْحَة جمع لِقَح و لِقَاح: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ اللَقُوح جمع لُقُح: حاملہ اونٹنی۔ ۔ جمع لِقَاح و لَقَائِح: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ المَلاقِح واحد مُلْقِح: حاملہ کرنے والے۔۔۔۔۔ واحد مُلْقِحة: حاملہ مادائیں۔ المَلاقِيح نر اونٹوں اور نر گھوڑوں میں گابھن کرنے کا مادہ۔ واحد مَلْقُوحَة: مائیں، پیٹ کے بچے (جنین)۔ المُلَقَّح (مفع): آزمودہ۔

۲۔ لَقَحَ ۔لَقْحاً ہُ علی الارض: کو زمین پر پچھاڑنا (عوام کی زبان میں)

۳۔ اللِقْحَة جمع لِقَح و لِقَاح (ح): عقاب (ح) کوا۔ ۔ جمع لِقاح: نفس، اللوَاقِح: کوڑے۔

○ لَقَحَ ۔لَقْحاً و لَقَّحَ ہ: کو حاملہ کرنا، کو ثمر دار کرنا، بار آور کرنا، کو زرخیز کرنا، پر زیرہ گل چھڑکنا۔ ۔۔۔ ہ (درخت) کو قلم لگانا، پیوند لگانا، درخت کا کلیاں نکالنا، درخت کا پھوٹنا۔ ۔ ہ: کو ٹیکہ لگانا، کو ویکسین کا ٹیکہ لگانا، چیچک کا ٹیکہ لگانا۔ تـلاقَح: زیرہ گل سے دو درختوں کا باہم زرخیز ہونا۔ لَقْح: حاملہ کرنا، ثمر دار کرنا، بار آور کرنا، زرخیز کرنا۔ لَقَاح: بیج، نطفہ، مادہ منویہ، نر کا مادہ تولید، پھول کا ریزہ، زرگل، اُڑ کر لگنے والا عامل، متعدی عامل، کسی مستعدی مرض کا زہر، (virus)، زہریلا مادہ، ویکسین (vaccine)۔ لَقَاحُ الجُدَرِی. چیچک کے ٹیکے کی دوا۔ لَقَاحُ الوقاية: سیرم (serum)۔ تـلـقيح الجُدرِی: چیچک وغیرہ کا ٹیکہ۔ دقیق اللواقح: پھول کا ریزہ زرگل، زیرہ گل۔ مُلَقَّح: ٹیکہ لگا ہوا، چیچک کا ٹیکہ لگا ہوا، ویکسین کا ٹیکہ لگا ہوا۔

لقز: لَقَزَ ۔لَقْزاً ہُ: کو مکا مارنا۔

لقس ۱۔ لَقَسَ ۔لَقْساً ہُ: کو عیب لگانا۔ صفت لاَقِس۔ لاَقَسَ لِقاسًا و مُلاقَسَةً القومَ: ایک دوسرے کو برے القاب دینا۔ تَلاقَسَ القومُ: ایک دوسرے کو گالی دینا، باہم گالم گلوچ کرنا۔ اللَقُس و اللاَقِس: خارش، کھجلی۔ اللَقِس: لوگوں سے تمسخر کرنے والا، کو برے القاب دینے والا۔

۲۔ لَقِسَ ۔لَقَسًا ت نفسُهُ من الشیء: سے جی متلانا صفت لَقِسَة۔ ۔۔۔ ت نفسُ فلانٍ إلى الشيء: کی طرف راغب ہونا، مائل ہونا۔ تَلَقَّسَ تْ نفسُهُ من الشیء: سے تنگ ہونا۔ اللَقِيس: بد خلق، ہر چیز کا حریص، کسی بات پر نہ جمنے والا۔

۳۔ لَقِسَ ۔لَقَسًا بامرٍ کو سمجھ لینا، کا ادراک کر لینا، سے آگاہ ہو جانا۔ صفت لَقِس۔

۴۔ اللَّقِيس: دیر سے آنے والا، دیر کرنے والا، عوام اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ تَلَقَّس یعنی اس نے دیر کی۔ (سریانی)۔ المُلاقِس: صبر کرنے والا۔

○ لَقِسُ النفس: پریشان، تنگ مزاج، چڑچڑا۔

لقص: ۱۔ لَقَصَ ۔لَقْصًا الشیءُ جلدَہ: چیز کا جلد کو گرمی سے جلانا۔

۲۔ لَقِصَ ۔لَقَصًا الشیءُ: چیز کا تنگ ہونا۔ ۔۔۔ ت نفسُهُ: جی متلانا۔ اللَقِص: تنگ۔

۳۔ اِلْتَقَصَ الشیءَ: کو لینا، پکڑنا۔

۴۔ اللَقِص: شرارت میں جلدی کرنے والا، باتونی۔

لقط: ۱۔ لَقَطَ ۔لَقْطًا الشیءَ: کو زمین سے اٹھا لینا۔ ۔۔۔ العلمَ من الكتب: علم مختلف کتابوں سے حاصل کرنا۔ ۔۔۔ الطائرُ الحبَّ. پرندہ کا چونچ سے دانہ چگنا۔ صفت۔ لاقِط و لَقّاط۔ تَلَقَّط الشیءَ: چیز کو ادھر اُدھر سے اکٹھا کرنا۔ اِلْتَقَطَ الشیءَ: کو اتفاقیہ معلوم کرنا، کو زمین سے اٹھا لینا، کو ادھر سے ادھر سے جمع کرنا۔ ۔۔۔ اللِقاط: گری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ اللاَقِط (فا): گرے ہوئے خوشے چننے والا۔ اللاقِطَة: لاقط کا مؤنث۔ ضرب المثل۔ لکلّ ساقِطةٍ لاقِطةٌ: یعنی ہر بات جو زبان سے نکلے اس کو سننے والا ہے۔ جو اسے پھیلا دیتا ہے، یہ گویا نصیحت ہے کہ بات احتیاط سے کی جائے، ہیچ و ناکارہ مرد یا عورت۔ لاقطة الحصَی: پرندہ کا پوٹا۔ اللَقَط واحد لَقَطَة: اٹھائی ہوئی چیز، خوشے یا کھجور جو چھانٹے گئے ہوں۔ لَقَطُ المعدن: کان کی کچی دھات کے ٹکڑے۔ کہا جاتا ہے: فی المکان لَقَطٌ لماشية: اس جگہ جانوروں کیلئے تھوڑا سا چارہ ہے۔ اللُقْطَة و اللُقَطَة: زمین پر گری پڑی چیز جس کے مالک کا پتہ نہ ہو اور آپ اسے اٹھا لیں۔ اللَقَطَة جمع لَقَط (ن): ایک سبزی جو جانوروں کی مرغوب غذا ہے۔ اللُقاط و اللَقَاط: فصل کاٹنے والے سے گرے ہوئے خوشے جو بعد میں چنے جاتے ہیں، زمین پر پڑی ہوئی پائی جانے والی چیز۔ اللِقَاط: لُقاط کی جمع اور اس کا اکٹھا کرنا۔ اللُقاطَة جمع اَلْقاط: بمعنی لُقَاط: گری ہوئی بے قیمت چیز۔ اللَقّاط و اللَقّاطَة: بہت اٹھانے والا۔ اللَقِيط: اٹھایا ہوا، یافتہ بچہ۔ اللَقِيطَة جمع لَقائِط: لقیط کا مؤنث، گرا ہوا رذیل مرد یا عورت۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ لُقَّيطَى خُلَّيطَى: چغلخوری کیلئے ادھر ادھر سے خبریں بٹورنے والا۔ الألقاط: آوارہ اوباش لوگ، تھوڑے متفرق لوگ۔ المَلْقَط: مطلب، دھات۔ المِلْقاة جمع مَلاقِط: چمٹا، دست پناہ۔ المِلْقاة جمع ملاقيط: قلم، نقش کرنے کا آلہ۔ (ح): مکڑی۔ المَلْقُوط (مفع) جمع

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ملاقیط: نومولود جسے پھینک دیا گیا ہو اور اٹھا لیا گیا ہو۔ عند العامة: مجرم جسے گرفتار کرلیا گیا ہو۔

۲ لَقَطَ ـلَقْطًا الثوبَ: کپڑے کو پیوند لگانا لَاقَطَ لِقاطًا و مُلاقَطَةً الفرسُ: گھوڑے کا چاروں ٹانگوں سے روانہ ہونا ہ کے مقابل ہونا الِلقاط (مص): کہا جاتا ہے دارُهُ بلقاطِ داری: اس کا گھر میرے گھر کے مقابل ہے لقیتُه لِقاطًا: میں اس سے منہ در منہ ملا۔ (نصب حال کی وجہ سے ہے)۔

۳ اللاقِط: آزاد کردہ غلام، آواز دیتے ہوئے کہا جاتا ہے یا مَلْقَطان: یعنی اے بے وقوف۔ مؤنث مَلْقَطانة۔

⊙ لَقَطَ ـلَقْطًا و لَقَطَ ہ: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کو زمین میں پانا، کو زمین پر سے لگانا، (بالیں) جمع کرنا، کو ایک ایک کر کے چنا، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا، تھوڑا تھوڑا منتخب کرنا تَلَقَّطَ ہ: کو اکٹھا کرنا جمع کرنا، ایک ایک کر کے چنا، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا، تھوڑا تھوڑا منتخب کرنا، اٹھانا، پانا، اٹھا کر کھڑا کرنا، کہیں سے سنی گئی پالینا، کو لیجانا اِلْتَقَطَ بمعنی لَقَطَ نیز اِلْتَقَطَ ہ: (ریڈیو لہریں یا ریڈیو پیغامات) وصول کرنا ہ: (تصویر۔ فوٹو) اُتارنا، کھینچنا اِلْتَقَطَ صورةً: تصویر بنانا لَقَط: جو چیز اٹھائی یا جمع کی جائے، پس خوردہ، بچا کھچا، چنی ہوئی، لی ہوئی، منتخبہ لُقْطَة: بمعنی لَقَط نیز: پائی ہوئی کوئی چیز، دریافت (خوش نصیب دریافت) سود الُقاط و لُقاطة بمعنی لَقَط نیز دانوں کے بچے کھچے خوشے، منتخبہ، پس خوردہ، چنی ہوئی، لی ہوئی، آخور، فضلہ، چھیچھڑے اوجھڑی وغیرہ لقیط: اٹھایا ہوا، پایا ہوا، گرا پڑا بچہ۔ لقیطه: گری پڑی بچی مِلْقَط جمع ملاقط: چمٹا، دست پناہ، چمٹی، سنسی، موچنا، چھوٹی سنسی، پلاس۔ ملقط الجنین: جراحی چمٹی مِلْقَطُ النار: کوئلے پکڑنے کا چمٹا، جهاز الالتقاط: ریسور (ریڈیو، ٹیلیویژن سیٹ) لَاقِطُ الصوت: فونوگراف، گراموفون لاقطعةُ الألغام: سرنگیں ہٹانے یا صاف کرنے والا جہاز (mine weeper)۔

لقع: اللَقَعَ ـلَقْعًا الشیءَ: کو پھینکنا فلانا بعینه: کو نظر بد لگانا ـ ہُ بالکلام: پر باتوں میں غالب ہونا۔ ـ تْهُ الحیةُ: سانپ کا کسی کو ڈسنا ـ فلانًا: پر عیب لگانا ـ فلانٌ: عیب دار ہونا ـ لَقَعَانًا: تیزی سے گزرنا لَاقَعَ فلانًا بالکلام: پر گفتگو میں غالب ہونا تَلَقَّعَ بالکلام: فضول گوئی کرنا اللُقَّاع و اللُقَّاع واحد لُقَّاعَة و لقّاعة (ح): کاٹنے والی سبز رنگ کی مکھی المِلْقَعَة و اللُقَّاع و اللُقّاعَة و التِلِقَّاع و التِلِقَّاعَة: بڑا عیب جو، لوگوں کو برے القاب دینے والا۔ بہت باتیں کرنے والا، بے وقوف۔ کہا جاتا ہے: امرأةٌ مِلْقَاعٌ و مِلْقَعَةٌ: بیہودہ گویا فحش گو عورت۔

۲ المُتَقِعَ لونُهُ: کا رنگ متغیر ہوجانا۔

⊙ لَقَعَ ـلَقْعًا ہ: کو پھینک دینا، کو بے کار سمجھ کر پھینک دینا، کو ترک کر دینا۔

لقف: القِفَ ـلَقْفًا و لَقَفَانًا الشیءَ: چیز کو جلدی سے پکڑ لینا، کو اچک لینا لَقَّفَ ہُ الشیءَ: چیز کو کسی کی طرف پھینکنا کہ وہ اسے اچک لے ـ ہُ الطعامَ: کو کھانا نگلوانا ـ الطعامَ: کھانا نگلنا تَلَقَّفَ الشیءَ: چیز کو جلدی سے پکڑ لینا ـ الطعامَ: کھانا نگلنا۔ کہا جاتا ہے تَلَقَّفَ مِن فیه کذا: کو محفوظ کر لینا المُلَقَّف: جلدی سے پکڑ لینا اِلتَقاف و تلقف: کی طرح اچک لینا اللَقْف و اللَقِف و اللقیف من الرجال: پھرتیلا، ماہر، دانا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ ثَقْفٌ لَقْفٌ و ثَقِفٌ لَقِفٌ و ثَقِیفٌ لَقِیفٌ: تیز فہم چابک دست، ماہر، سبک دست، ذہین، زیرک (مرد) اللَقافة: مہارت، سبک دستی، تیز فہمی، ذہانت۔

۲ لَقِفَ ـلَقَفًا الحوضُ: حوض کا اندر سے گر کر وسیع ہونا۔ صفت لَقِف ـ الحائِطُ: دیوار کا گر جانا۔ لَقَّفَ الفرسُ: گھوڑے کا اگلی دو ٹانگوں سے سرپٹ دوڑنا تَلَقَّفَ الحائطُ و الحوضُ: دیوار یا حوض کا گر جانا اللَقَف (مص) جمع لِقاف: کنویں کا کنارہ، حوض بعیرٌ مُتَلَقِّفٌ: تیز رفتار اونٹ۔

⊙ لَقِفَ ـلَقْفًا و لَقَفَانًا ہ: کو جلدی سے پکڑ لینا، لپک کر لینا، اچک لینا، جھپٹ لینا ـ ہ عن: کو سے چھین لینا، جھپٹ لینا، کو سے سنبھالنا تَلَقَّفَ و التقف بمعنی لَقِف نیز تَلَقَّفَ و الْتَقَفَ ہ: سے فائدہ اٹھانا، کو زبردستی لے لینا، پر بالجبر قبضہ کرنا۔

لقم: اللَقَمَ ـلَقْمًا الطعامَ: کھانا جلدی سے کھانا ـ الطریقَ وغیرَہ: راستے وغیرہ کا دہانہ بند کرنا لَقَّمَ الخبزَ: روٹی کے لقمے بنانا ـ و اَلْقَمَ ہُ الطعامَ: سے کھانے کے لقمے بنوانا۔ کہا جاتا ہے اَلْقَمَہُ الحجرَ: اس نے اس کو جھگڑے میں خاموش کر دیا۔ تَلَقَّمَ الشیءَ: کو جلدی جلدی کھانا اِلْتَقَمَ الطعامَ: کھانے کو نگلنا یا بڑے بڑے نوالے کھانا۔ کہا جاتا ہے اِلْتَقَمَ اُذُنَہُ: اس نے اس کے کان میں کہا ... کوئی ... اللَقْم و اللَقَم: راستے کا بڑا حصہ یا اس کا وسط یا کھلا راستہ المَلْقَمة: لقمہ لقمہ کھانا المُلْقُمة جمع لُقَم: لقمہ المِلْقیم: لقمہ المِتِلْقام و التِلْقَامَة و التِلِقَّام و التِلِقَّامَة: بڑے بڑے لقمے نگلنے والا۔

۲ تَلَقَّمَ الماءُ فی بطنه: پانی کا پیٹ میں بولنا رَكِيَّةٌ مُتَلَقِّمة: بہت پانی والا کنواں۔

⊙ لَقَمَ ـلَقْمًا ہ: کو بند کرنا، روکنا، (راستہ) روکنا۔ لَقِمَ ـلَقْمًا ہ: کو کھانا، کو بے حد شوق سے کھانا، ہڑپ کرنا، نگلنا لَقَّمَ ہ: کو لقمہ لقمہ کر کے کھلانا ـ ہ (بندوق وغیرہ) میں گولیاں بھرنا، (توپ میں) گولے ڈالنا لَقَّمَ القہوةَ: قہوہ کو گرم پانی میں ہلانا اَلْقَمَ ہ: سے نگلوانا، کو لقمے لقمے کر کے کھلانا۔ اِلْتَقَمَ ہ: کو ہڑپ کرنا، نگلنا لُقْمة جمع لُقَم: ٹکڑا، لقمہ، چھوٹا ٹکڑا، نوالہ لُقْمةٌ سائِغةٌ: تر نوالہ، مزیدار لقمہ، پسندیدہ لقمہ جَعَلَہ لُقْمةً سائِغةً لِ: کو کا آسان شکار بنا دینا لقمةُ القاضی: ایک قسم کی پیسٹری لُقَیْمَة جمع لُقَیْمات: لقمہ، نوالہ، ہلکا ناشتہ، ٹکڑا مُلَقِّم جمع مُلَقِّمون: معاون توپچی، توپچی۔ لَقِمی یا لاقِمی: کھجور کی شراب لُقْمان: لقمان، ایک فرضی دانا اور متعدد حکایات کا مصنف یقیت دارُ لقمان علی حالها: ہر چیز پہلی جیسی رہی ہے۔

لقن: اللَقِنَ ـلَقانةً: سمجھدار اور عقلمند ہونا لَقِنَ ـلَقَنًا و لَقانةً و لَقانِیةً و تَلَقَّنَ الکلامَ مِن فلان: سے کلام بالمشافہ لینا اور سمجھنا لَقِنَ ہُ الکلامَ: کو کلام بالمشافہ سمجھانا اِلْقَنَ الکلامَ: کلام کو جلدی سے حفظ کر لینا اللَقِن: زود فہم تیز فہم۔ کہا جاتا ہے ہو ثَقِفٌ لَقِنٌ: وہ بڑا سمجھدار ہے اور سنی ہوئی بات کو جلد یاد کر لیتا ہے اللَقانة و اللَقانِیة (مصدر ہیں): تیز فہمی، زود فہمی۔

۲ اللِقْن: سہارا، مدد، حمایت اللَقَن: پیتل کا تھال، جسے لگن بھی کہا جاتا ہے، جو فارسی لفظ ہے اللَوافِن: پیٹ کا زیریں حصہ۔

⊙ لَقِنَ ـلَقانةً و لَقانِیةً ہ: کو سمجھنا، کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، مستنبط کرنا، قلمبند کرنا لَقَّنَ ہ ہ: کو کچھ سکھانا، کو کی تعلیم دینا، کو کچھ املا کرانا، کو کچھ ذہن نشین کرنا، میں کی روح پھونکنا، میں کا جوش پیدا کرنا، کے دل میں کچھ بٹھانا، میں کا خیال ڈالنا، کے دل میں کوئی بات ڈالنا، کے کان میں کچھ کہنا، سے کی سرگوشی کرنا ـ ...ہ: کو اکسانا، آمادہ کرنا، کو یاد دلانا تَلَقَّنَ بمعنی لَقِنَ: نیز تَلَقَّنَ ہ من: سے کچھ سیکھنا، وصول کرنا، حاصل کرنا، کے ذریعے سے مطلع ہونا لَقانة و لَقانیة: زود فہمی،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تیز فہمی، ادراک۔ تــلــقـیــن: تعلیم، ہدایات، املا، حکم، ارشاد، تخلیقی تحریک، تلقین، اشارہ، الہام، ایما، رشوت دیکر گواہ سے دلوائی گئی جھوٹی شہادت۔ مُـلَـقِّـن: ع، روح پھونکنے والا، تلقین کرنے والا، دل میں ڈالنے والا، فقیہ جو میت کو اسکی قبر میں تعلیم دیتا ہے کہ وہ موت کے دوفرشتوں کو کیا کہے۔

لـقـو: لَقَا یَلْقُو لَقْوًا فلانًا: کولقوی میں مبتلا کرنا۔ لُقِیَ لَقْوًا: لقوہ میں مبتلا ہونا۔ اللَّقْوَة (طب): لقوا، منہ کے ٹیڑھے ہونے کی بیماری۔ — و اللِقوی جمع لِقاء و الْقَاء (ح): مادہ عقاب، تیز پرواز عقاب۔ المَلْقُوّ: لقوے میں مبتلا۔

لـقـی: لَقِیَ یَلْقَی لِقَاءً ا و لِقَاءَةً و لِقَایَةً و لُقَاءَةً و لُقْیَـانًا و لِقْیَـانًا و لِقْیَانَةً و لُقِیًّا و لِقِیًّا و لَقْیَةً و لُقْیَةً و لُقِی فلانًا: کا استقبال کرنا، کو پانا، دیکھنا، سے ملاقات کرنا۔ لاَقَی لِقَاءً و مُلاقَاةً الرجُلَ: کے آمنے سامنے آنا، سے ملاقات کرنا، ملنا۔ کہا جاتا ہے: لاقی بین طَرَفَی القصیب: اس نے کاٹی ہوئی شاخ کے سروں کو جھکا کر ملا دیا۔ لُوقِیَ بینهما: ان دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا۔ تَلَقَّی الشیءَ: چیز کو پانا، کا استقبال کرنا۔ — ت المرأةُ: عورت کا حاملہ ہونا صفت مُتَلَقٍّ۔ اِلْتَقَی الشیءَ: سے ملنا، کو پانا۔ — القومُ: بعض کا بعض کو ملنا، ایک دوسرے کو ملنا۔ تَـلاقَی القومُ: بعض کا بعض سے ملنا۔ اللَّقْیَة جمع لُقًی: لَقِیَ کا اسم مرہ۔ ملاقات، پانا۔ کہا جاتا ہے: لقیتُهُ لُقًی کثیرةً: میں اُسے کئی بار ملا، میں نے اُس سے بہت سی ملاقاتیں کیں۔ اللُّقیاء: لقاء کا اسم۔ التِلْقاء: لقاء کا اسم، ملاقات کی جگہ، ملاقات۔ جَلَسَ تِلقاءَہ: اس کے مقابل بیٹھا۔ فَعَلَ الامرَ من تلقاء نفسه: اس نے وہ کام خود بخود کیا بغیر اس کے کہ اُسے اس پر مجبور کیا گیا ہو۔ اللَّقِیّ م لَقِیَّة: بھلائی یا برائی کیلئے سامنے آنے والا، اس کا اکثر استعمال برائی کے لئے ہے۔ کہا جاتا ہے: هو شقیّ لَقِیّ: وہ شر انگیز ملاقاتی ہے، اتباع، ملنے والا۔ کہا جاتا ہے: هـمـا لَقِیَّان و لَـقِیَّـان: وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے ملنے والے ہیں۔ اللَّقَّاء: خیر وشر کیلئے سامنے آنے والا، شر کیلئے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یـوم التَّلاقِی: قیامت کا دن۔ المُتَلاقِی (فا) شعر کے اوزان میں سے ایک بحر کا نام جو متدارک اور خبب ہے جو فَعِلُن سے آٹھ بار پر مشتمل ہے۔ المُلْقَی: خیر اور شر کیلئے سامنے آنے والا، اکثر شر کیلئے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُلَقًّی: مصائب اس کی آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ المَلْقَی و المُلْتَقَی: جائے ملاقات۔ المَلاقِی: مَلْقَی کی جمع۔ مَـلاقِی الاَجْفَـان: پلکوں کے ملنے کی جگہ۔ المُـلَـقَّی و المَلْقِیّ: خیر و شر کے لئے سامنے آنے والا، شر کے لئے کثیر الاستعمال ہے۔ کہا جاتا ہے: الشجاع مُوَقًّی و الجبان مُلَقًّی: بہادر کو محفوظ رکھا جاتا ہے، بزدل منحوس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هو جاری مُلاقِیَّ: وہ میرے سامنے کا پڑوسی ہے۔

۲۔ لَقَّی تَلْقِیَةً فلانًا الشیءَ: کی طرف کوئی چیز پھینکنا۔ اَلْقَی الشیءَ اِلَی الارض: چیز کو زمین پر پھینکنا۔ ...... الیـه القـولَ و بـالقول: کو بات پہنچانا۔...... علیـه القـولَ: سے بات لکھوانا، املا کرانا، کو کوئی تعلیم دینا، کو بات پہنچانا۔ — فیه الشیءَ: میں چیز رکھنا — عنهُ الشیءَ: سے چیز کو دور پھینکنا۔ — الیه السمع: کی طرف کان لگانا۔ — الیه خیرًا: سے نیکی کرنا۔ — الیـه بالاً: کی پروا کرنا، کی بات خود سے سننا۔ کہا جاتا ہے: القیتُ الیه المودّةَ و بالمودّة: میں نے اس سے محبت کی۔ تَـلَقَّی الشیءَ منه: سے کوئی بات سیکھنا۔ تَـلاقَی القومُ: آپس میں جھگڑنا۔ اِسْتَلْقَی علی قفاہ: چت لیٹنا، سونا۔ اللَّقَی جمع اَلْقَاء: پھینکی ہوئی ردی چیز۔ اللَّـقْیَة و اللُّقْیَة مصدر ہیں۔ اللَّقِیَّة عـنـد العامة: زمین میں مدفون خزانہ یا کھوئی ہوئی وہ چیز جو راستوں پر پڑی ہوئی پائی جائے۔ الاُلْقِیَّة جمع الاَلَاقِیّ: چیستان، پہیلی۔ المُلْقَی: چیز ڈالنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: هـذا مُلْقَی الکناسات: یہ کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے۔ فناءُ فلانٍ مُلْقَی الرحال: فلاں کے گھر کا صحن کجاووں کے اترنے کی جگہ ہے یعنی وہ بڑا مہمان نواز ہے۔

۳۔ اللُّقَی: پرندے، دردیں۔ اللَّقَـاة: راستہ کا بیچ۔ الاَلاقِیّ: سختیاں، افسوسناک حادثات۔

لَقِیَ ـلِقَاءً و لُقیانًا و لُقًی و لُقْیَةً و لُقًی ہ/ ہ: سے مڈبھیڑ ہونا، کو دیکھنا — ہ: کو ملنا — ہ/ ہ: سے اتفاقاً ملنا، کو اتفاقاً پانا، پر نازل ہونا، کو پانا۔ — ہ کا تجربہ کرنا، سے دوچار ہونا، سے گزرنا، کو برداشت کرنا، کو جھیلنا، کو اٹھانا، دیکھنا (مصائب وغیرہ) — ہ: کے حصہ میں آنا۔ لاَقَی ہ: سے ملنا، سے اتفاقاً ملنا، سے مڈبھیڑ ہونا، — ہ/ ہ: پر نازل ہونا۔ — ہ کا تجربہ کرنا، سے دوچار ہونا، سے گزرنا، کو برداشت کرنا، کو جھیلنا، دیکھنا (مصائب وغیرہ)۔ — ہ کو وصول کرنا، حاصل کرنا۔ لاَقَی آذانًا صاغیةً: سننے والے کان پانا۔ اَلْقَی ہ: کو پھینکنا، گرانا، کو دور پھینک دینا، کو بیکار سمجھ کر پھینک دینا۔ — ہ علی: کو کے سامنے پیش کرنا، رکھنا، کی خدمت میں پیش کرنا، سے سوال کرنا۔ — ہ الی/علی: کی سے رپورٹ کرنا، کو کے آگے پیش کرنا۔ — ہ: گیت گانا، کو پیش کرنا (جیسے نشر کرنے والی کوئی چیز) — ہ: (لیکچر) دینا — ہ: (کلاس) لینا۔ — ہ: خطاب کرنا۔ — ہ الی: کو (مبارکباد) پیش کرنا۔ — ہ علی: پر کچھ عائد کرنا، کو سے زیر بار کرنا۔ القی بالا لِ، القی بـاله الی: پر توجہ کرنا۔ القی بیانًا عن: کے بارے میں یا پر بیان دینا۔ القـی البیضَ: انڈے دینا۔ القـی مقالید امرہ الی فلان: اپنا انجام، قسمت، مقدر وغیرہ کے ہاتھوں میں دینا، اپنی قسمت کے سپرد کرنا۔ القـی بنفسـه فی: اپنے آپ کو میں پھینکنا، میں یکا یک کود پڑنا، میں چھلانگ لگانا، میں گھس جانا۔ القـی بنفسـه فی احضانه: اپنے آپ کو کسی کے بازوؤں میں گرا دینا، کے بازوؤں میں آ جانا۔ القـی بیـدہ الـی: اپنے آپ کو کے حوالے کرنا۔ القـی الحبل علی الغارب: کھلی چھٹی دینا، کوئی پابندی نہ لگانا۔ القـی خطابًا علی: سے (عام) خطاب کرنا۔ اَلقی الدرسَ: درس دینا۔ القی الرعب فی قلبـه: کو خوف زدہ کرنا، کو دہشت زدہ کرنا، کے دل میں دہشت ڈالنا۔ القـی السلاح: ہتھیار ڈالنا، اطاعت قبول کر لینا، سپر انداز ہونا۔ القـی السمع الیـه: کی باتیں غور سے سننا، کی طرف کان لگانا۔ القوا الیه أسماعهم: انہوں نے اس کی طرف کان لگائے، اس کی باتیں غور سے سنیں۔ القـی علیـه سؤالاً: سے کوئی سوال کرنا یا پوچھنا۔ القـی علی عـاتـقـه شیئًا: پر کوئی چیز عائد کرنا، کو کیلئے ذمہ دار سمجھنا۔ القی علومًا: (سائنسی) علوم سکھانا۔ القی القبض علی: کو گرفتار کرنا۔ القی القنابل علی: پر بم گرانا، بمباری کرنا۔ القی علیه القول: کو املا کرانا، سے لکھوانا، کو ہدایات دینا، تعلیم دینا۔ القـی علیها کلمة الطلاق: اس نے اپنی بیوی کو زبانی طلاق کہہ دیا۔ القی محاضرةً: لیکچر دینا، کلاس لینا۔ القـی المَسْؤُولِیَّةَ علیه: پر ذمہ داری ڈالنا، سے ذمہ داری کا بوجھ اٹھوانا۔ تَلَقَّی ہ/ ہ کا استقبال کرنا، کو وصول کرنا، — ہ کو لینا، قبول کرنا، کو حاصل کرنا۔ — ہ عن: سے کچھ سیکھنا، کے ذریعے سے مطلع ہونا — ہ عن/علی: سے کچھ سیکھنا۔ — عن: سے سبق لینا، سے سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا۔ تلقـی امرًا، حکمًا وصول کرنا، سپاہوں کا احکامات حاصل کرنا۔ تَلَقَّی الاوَامِرَ: (تجارت میں) آرڈر لینا۔ تلقّاہ بالتسلیم والقبول: اس نے دل و جان سے یا پورے طور پر اس سے اتفاق

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کیا، اس نے خوشی سے کی اطاعت اختیار کی ـتلقی دوسا فی: (کسی شعبہ میں) اسباق لینا ـتلقی العلومَ فی الجامعہ: یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا ـتَلاقَی: ملنا، ایک دوسرے میں شامل ہونا، اکٹھا ہونا ـاِلتقَی بمعنی تَلاقَی نیز اِلتقی ب: سے ملنا، سے مڈبھیڑ ہونا ـاِستَلقی: اپنے آپ کو نیچے گرا دینا، لیٹ جانا، لیٹنا ـلَقًی جمع اَلقاء: آخور، فضلہ ـتِلقَاءَ: کے بالمقابل، کے سامنے ـمن تلقاء نفسہ یا من تلقاء ذاتہ: خود، ازخود، خود بخود، آپ ہی آپ، آپ سے آپ ـتلقائی: خودکار، خود بخود کام کرنے والا، بیساختہ، آپ سے آپ، اپنے آپ۔ ـتلقائیًا: آپ سے آپ، خود بخود، خودکارانہ طور پر، بیساختہ ـلقاءَ: کے تبادلہ میں، کے لئے، پر ـلقاءَ کَفَالة: ضمانت پر، مچلکہ پر ـالی اللقاء: خداحافظ۔ علم الاِلقاء: فن خطابت، خطابت، طرز خطاب، اسلوب تقریر ـتلقی العلوم فی: (کسی یونیورسٹی وغیرہ میں) تعلیم حاصل کرنا ـمُلْقیاتُ الالغام البحریة: سرنگیں بچھانے والے جہاز ـمُلتقًی جمع مُلتَقَیات: اجلاس کی جگہ، ملاقات کی جگہ، اکٹھے ہونے کی جگہ، مرکز۔ نقطہ، تقاطع، مقام اتصال، سنگھم، چوراہا ـالی المُلتَقی: خداحافظ۔

لك: الَلكّ ـلَكًّاهُ: کی گدی پر مکا مارنا، کو دبانا، بھینچنا۔ ......الشیءَ: کو ملانا ـاِلتَكَّ الوردُ: پھولوں کا ہجوم ہونا اور ایک دوسرے میں پھنسا ہوا ہونا ...... العسکرُ: لشکر کا متحد ہونا ـاللِکاك جمع لُکُك و لِکاكٌ علی لفظ الواحد: بھیڑ، سخت گوشت والی اونٹنی ـاللَكّ (مص) جمع لِکاك و لُکُوك: گوشت۔ ...... واللُكَ: سخت ویر گوشت ـاللَکَّة: شدت، مکا ـرجلٌ لُکِّیّ: پرگوشت مرد ـالکیك جمع لِکاك: گنجان لشکر، سخت گوشت، موٹے سخت گوشت والا ـالمُلَكَّك: موٹے سخت گوشت والا۔ سکرانُ مُلتَكٌ: نشہ کی وجہ سے خشک۔

٢ـلَكَّ ـلَكًّا الجلدَ: چمڑا رنگنا ـاللَك جمع لَکاك و لُکُوك: سرخ رنگ جس سے کھال رنگتے ہیں ـ(ن): پودا جس سے گوند/لاکھ بناتے ہیں۔ ...... واللُكّ: مذکورہ پودے کی تلچھٹ یا نچوڑ، سرخ رنگ سے رنگی ہوئی کھالیں جنہیں چھیلا جاتا ہے ـاللَكَّةُ من الجلود: سرخ رنگ سے رنگی ہوئی کھالیں ـاللکیك جمع لِکاك: کول تار، لک۔

٣ـلَكَّ ـلَكًّا اللحمَ: گوشت کو ہڈیوں سے جدا کرنا۔

٤ـاِلتَكَّ فی کلامہ: اپنے کلام میں غلطی کرنا...... فی حجتہ: حجت میں دیر لگانا۔

٥ـاللَكّ جمع لُکاك و لُکُوك (ع ح): ایک لاکھ (100000)، دس ملین ـاللکیك جمع لِکاك (ن): کمزور درخت۔

٦ـاللُکلُك: پستہ قد، چھوٹا۔ ...... و اللُکالِك: بڑا اونٹ۔

○ لَكَّ ـلَكًّاه: کو گھونسا مارنا، مکا مارنا، طمانچہ مارنا، تھپڑ مارنا، موٹھ سے مارنا ـاِلتَكَّ: بھنچنا، گھسنا، کھچا کھچ بھرنا، دو چیزوں کے درمیان دینا، راستہ رکنا، تل دھرنے کی جگہ نہ ہونا، بھیڑ بھاڑ ہونا، بھیڑ کرنا، غلطیاں کرنا، قواعد صرف ونحو کے خلاف بولنا ـلَكّ جمع لُکاك و لُکُوك: لاکھ (100,000) روپے وغیرہ ـلُكّ ولكّ: رال، گوند، لاکھ (سیل کرنے کے لئے استعمال ہونے والی)

لکا: الَلکأ ـلَکْأً بالسوط فلانًا: کسی کو کوڑے سے مارنا ـــ فلانًا: کو پچھاڑنا۔ ...... بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔

٢ـلکَأ ـلکْأً الرجُلَ: کو اس کا پورا حق دینا۔

٣ـلَکِیَ ـلَکًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا ـــ بفلان: کے ساتھ ساتھ رہنا۔

٤ـتَلَکَّأَ تَلَکُّؤًا عن الامر: میں دیر لگانا، توقف کرنا۔ سے رک جانا، کو چھوڑ دینا ـعلیہ: سے معذرت چاہنا، معافی چاہنا۔

○ لکَأَ ـلکْأً: مارنا ـلکِیَ ـلکَأً ب: کسی جگہ رہنا، ٹھہر جانا، اقامت کرنا ـتَلَکَّأَ فی: میں دیر کرنا، سست ہونا، تاخیر کرنا، وقت ضائع کرنا، ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متأمل ہونا، تأمل کرنا ـــ تَلَکَّأَ: کوچہ گردی میں وقت ضائع کرنا، مارا مارا پھرنا، ہرزہ گردی کرنا، آوارہ گردی کرنا ـتَلَکَّأَ فی الاداء: نادہندہ ہونا، اپنی مالی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکنا ـلکّأة: ہچکچانے والا، دیر کرنے والا، دیر سے (کام) کرنے والا، تاخیری، سست، مٹھا، بعد از وقت، جس کے ذمہ بقایا جات ہوں، باقی دار۔

لکث: الَلکَثَ ـلَکْثًا ہُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا ـــ فلانًا: کو حد سے زیادہ زیر بار کرنا، پر بہت زیادہ بوجھ لاد دینا۔

٢ـلکِثَ ـلَکَثًا الوسخُ علیہ و بہ: پر میل کا جم جانا۔ ـــ البعیرُ: اونٹ کا منہ پر پھنسی والا ہونا ـاللَکَث (مص): دودھ کے برتن کے کناروں پر جما ہوا میل، اونٹ کے منہ کی پھنسیاں ـناقةٌ لکِثةٌ: موٹی اونٹنی۔ اللُکاث: اونٹ کے منہ میں نکلی ہوئی پھنسیاں۔

٣ـاللک...

چونا بنانے والا ـاللُکاثِیّ: بہت سفید۔

لکح: لَکَحَ ـلَکْحًاہُ: کو مارنا، کو مکا مارنا ـــ ہُ بلسانہ: کو زبان سے چاٹنا (عوام کی زبان میں)۔

لکد: الَلکَدَ ـلَکْدًاہُ: کو ہاتھ سے مارنا، کو دھکیلنا، پرے ہٹانا۔

٢ـلکِدَ ـلَکَدًا الوسخ علی فلان و بہ: سے میل کا چمٹنا، سے میل کا لگا رہنا ـــ الشَعَرُ: بالوں کا چمٹنا۔ لاکَدَ قیدَہُ: بیڑی سے بخوبی نہ چل سکنا ـــ الغُلَّ: طوق کو سلجھانا ـــ فلانًا: سے چمٹنا، کے ساتھ لگا رہنا ـتَلَکَّدَ فلانٌ: موٹے گوشت والا ہونا ـــ الشیءُ: چیز کے ایک حصہ کا دوسرے سے چمٹنا...... بہ او علیہ الوسخُ: پر میل کا جم جانا ـــ فلانًا: کو گلے سے پکڑنا ـاِلتَکَدَ فلانًا و بفلان: کے ساتھ لگا رہنا ـاللکِد: بخیل، بدخلق ـالالکَد: کمینہ، قوم کے ساتھ چمٹا ہوا ـالمِلکَد: لکڑی کا بنا ہوا ہتھوڑا، موگرا، موسل دستہ، موگری۔

لکز: لکَزَ ـلکْزًاہُ: کو مکا مارنا ـلاکَزَہُ: ایک دوسرے کو مکے مارنا ـتَلاکَزا: ایک دوسرے کو مکے مارنا۔ الکِز: بخیل ـالِلکاز: چیتھڑا جو دھرے کے سوراخ میں اس کو تنگ کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے۔ المُلَکَّز: ذلیل، جسے دروازوں پر دھکے دیئے جائیں

○ لَکَزَ ـلَکْزًا: مکہ مارنا...... ہ: کو لات مارنا، ٹھوکر مارنا، لات مار کر ہٹانا، دھکیلنا ـلَکِز: بخیلانہ، کنجوس، بخیل ـلِکاز: پن (pin)، کیل، میخ، کھونٹی، کھونٹا، چوب۔

لکس: کہا جاتا ہے زجُلٌ شکِس لکِسٌ: سخت بہت کم حکم ماننے والا۔

لکش: لکَشَ ہُ بیدہ: کو ہاتھ سے مارنا (عوام کی زبان میں) ـــ الفرسَ بالرکاب: گھوڑے کو رکاب چبھونا (عوام کی زبان میں)۔

لکض: لکَضَ ـلکْضًاہُ: کو مکا مارنا۔

لکع: الَلکَعَ ـلکْعًا الولدُ: بچہ کا دودھ چھوٹنے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے ترکتُہُ یلکع: میں نے اس کو کھاتا پیتا چھوڑا ـاللُکَع: چھوٹا بچہ۔

٢ـلکَعَ ـلکْعًا تہُ العقربُ: کو بچھو کا ڈسنا ـــ الرجُلَ: کو سخت وست کہنا، کو کھری کھری سنانا ـاللُکاعَة جمع لُکاع (ن): ایک خاردار پودا۔

٣ـلکِعَ ـلَکَعًا و لکاعَةً: لئیم ہونا، بے وقوف ہونا۔ ......لکَعًا علیہ الوسخُ: پر میل جم جانا، سے میل چمٹ جانا ـاللُکَع: میلا، بے وقوف (ح)۔ بچھیرا، گدھے کا بچہ، غلام، لئیم، پکارتے وقت کہتے ہیں:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

یــالُکَعُ: دوکو، یــا ذوَی لُـکَعَ معرفہ بھی غیر منصرف ہے۔ الــلُّـکَعَۃ: کمینہ عورت۔ رجُــلٌ لَــکاعٌ: کمینہ مرد۔ امـــرأۃٌ لکــاعِ (ع کی زیر کے ساتھ): کمینی عورت، یہ لفظ صرف پکارنے کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ اللکُوع و اللکیع کمینہ۔ الألکَع م لکُعَاء جمع لُکَعٌ کمینہ۔ الــمَلکَعَان کمینہ۔ مَــلکَعَانَۃ کمینی۔

۴۔ الــلُّـکَع (ح) گھوڑا یا وہ گھوڑا جس کے دانت گر گئے ہوں۔ الــلُّکَعَۃ (ح) گھوڑی۔ الألکَع (ح) وہ گھوڑا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

○ لَکِیع جمع لُـکَعَاء کمینہ، ذلیل، موجب رسوائی، شرمناک رسوائی کا موجب، گنہگار، فاسق، بداعمال، بدطینت، بدکار، فاجر، بےوقوف۔ لُکَاعَۃ کمینگی، کمینہ پن، ذلت، بدکاری، فسق و فجور، بداعمالی، بدچلنی، سیاہ کاری۔

لکم: لَکَمَ ـ لَکْمًا ہُ: کو مکہ مارنا، تھپڑ مارنا، ہٹانا۔ کہا جاتا ہے: لــکــم الســیــلُ عرض الجبل: سیلاب نے پہاڑ کے پہلو پر نشانات چھوڑے۔ لَاکَمَ مُلاکَمَۃً ہُ ایک دوسرے کو مکے مارنا۔ اِلْتَکَمَ متصادم ہونا۔ تَلاکَما ایک دوسرے کو طمانچے مارنا۔ الــلُّـکْمَــہ طمانچہ، تھپڑ، گھونسہ، مکا۔ خفٌّ لَکَّامٌ سخت کھر جو پتھر توڑ دے۔ رجُلٌ مِلکَم مکے باز۔ خف مِلکَم سخت کھر، سم۔ الــمُلکَّم پیوند لگا ہوا، چمڑے کا موزہ۔ حف مُلکَم سخت کھر جو پتھر توڑ دے۔ المَلکُوم: مظلوم۔

○ لُکْمَہ جمع لُـکَمات مکے یا گھونسے کی ضرب، گھونسا، مکا۔ مِــلْـکَمَۃ مکے بازی کے دستانے۔ مُلاکَمَۃ مکے بازی، مکے بازی کا مقابلہ۔ مُلاکِم: مکے باز، باکسر (boxer) انعام کے لئے لڑنے والا۔

لکن ۱۔ لَکِنَ ـ لَکَنًا و لُکْنَۃً و لُکُونَۃً و لُکْنُونَۃً الــرجُلُ گفتگو میں رکنا، زبان کا اٹکنا، ہکلانا صفت اَلْکَن م لَکْنَاء جمع لُکْن۔ تَلاکَنَ فی کلامہ ہنسانے کے لئے ہکلانا۔ الــلُّکْنَۃ (مص): ہکلا پن، گفتگو میں رکاوٹ۔

۲۔ لَکِنْ اصل میں لاکن ہے۔ لَکِــنَّ ثقیلہ سے مخفف ہے۔ حرف ابتداء کے طور پر دو جملوں یعنی جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور کبھی اس سے پہلے واو بھی آتا ہے۔ جیسے: قام عمرو و لکن زیدٌ جالِس عمرو کھڑا ہے لیکن زید بیٹھا ہے۔ کبھی اپنی وضع اصلی سے خفیفہ ہوتا ہے اور اس وقت یہ حرف عطف ہوتا۔ اگر جملہ کو معطوف کرے تو اس کے ساتھ واو ہوتا ہے اور اگر اسکے بعد مفرد آئے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ واوَ نہ آئے بلکہ اس سے پہلے نفی یا نہی ہو۔ جیسے: ماقام زیدٌ لکن عمرو: زید کھڑا نہیں ہوا لیکن عمرو کھڑا ہوا۔ لاتضرب زیداً لکن عمراً: زید کو نہ مار لیکن عمرو کو مار۔ لَکِنَّ: اس کی اصل لاکِنّ ہے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل سے ہے۔ اسم کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع اور استدراک کے لئے آتا ہے: قام القومُ لکنّ زیداً جالس: لوگ کھڑے ہوئے لیکن زید بیٹھا ہوا ہے۔ تاکید کیلئے بھی آتا ہے۔ جیسے: لــو زارنی زیدٌ لأکرمته لکنه لم یجی: اگر زید میرے پاس آتا تو میں اس کی عزت کرتا لیکن وہ نہیں آیا۔ اس طرح آپ نے لکنّ سے لو کے معنی کی تاکید کردی۔

۳۔ اللکَن جمع اَلْکان لگن تانبے کا برتن جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں یا آٹا گوندھا جاتا ہے۔ (فارسی لفظ)

○ لُکْنَۃ: ہکلانا، غلط الفاظ کا استعمال، صرف و نحو کے قواعد کے خلاف زبان، غلط تلفظ۔ لــکَــانَۃٌ فی الــکــلام: بولنے کا نقص، بولنے میں ہکلانے کا انداز۔ اَلْکَن م لَکْنَاء جمع لُکْن ہکلا، غلط بولنے والا۔

○ لَــکِــن (لاکــن)، لَــکِــنَّ (لاکِــنَّ): لیکن، مگر، بہر صورت، بہر کیف، بہر حال۔ اس کے باوجود، تاہم باوجود یکہ، گو کہ۔

لکی: لَکِیَ یَلْکَی لَکًی بہ: کا مشتاق ہونا، سے چمٹنا صفت لَکِیَ۔ ــ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ اللاکی عیب جو۔

○ لِکَی و لِکیما تاکہ، تا، کرنے کیلئے، کی غرض سے۔

لــم: لَمْ: نہیں (حرف جزم)۔ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کردیتا ہے۔ جیسے: لــم یــأکُلْ: اس نے نہیں کھایا۔ لَمْ پر ھمزہ استفہام آئے تو نفی اثبات کے معنی میں ہوجاتی ہے۔ جیسے: أَلم اقُلْ لك؟: کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ اس وقت یہ تقریر اور توبیخ کے معنی دیتا ہے۔ ہمزہ اور لَمْ کے مابین 'ف' اور واوَ بھی آتا ہے۔ جیسے: أَفَلَمْ اقُلْ لَكَ اور اَوَلَمْ اُوَدِّبْكَ تو کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، تو کیا میں نے تمہیں نہیں سکھایا تھا۔

لمّ: ۱۔ لَمَّ ـ لَمًّا الشیءَ: کو جمع کرنا، شامل کرنا۔ کہا جاتا ہے: لَمَّ اللّٰہ شعثَ فلانٍ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی پراگندگی کی اصلاح فرمائے۔ ــ بفلان: کسی کے پاس مہمان بن کر اترنا۔ لُمَّ فلانٌ کسی کو کچھ جنون لاحق ہونا صفت: مَلْمُوم۔ اَلَمَّ: چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ ــ الغلامُ لڑکے کا بلوغ کے قریب پہنچنا۔ صفت مُلِمّ۔ ــ ت النخلۃُ: درخت کھجور کا پختگی کے قریب پہنچنا۔ ــ الشیءَ: قریب ہونا۔ ــ بہ مرضٌ کو مرض لاحق ہونا۔ ــ بالقوم و علی القوم: آکر لوگوں کے پاس کچھ دنوں کے لئے ٹھہرنا۔ ــ بالمعنی: معنی جان لینا۔ ــ بالذنب: گناہ کرنا۔...... بالامر: کو گہرائی سے نہ دیکھنا۔ ــ بالطعام: کھانے میں اسراف نہ کرنا۔ کَادَ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے: اَلَمَّ یفعل کذا وہ ایسا کرنے کو ہوا۔ اِلْتَمَّ فلاناً: کے پاس جانا...... بالقوم: لوگوں کے پاس آکر ٹھہرنا۔ عوام کہتے ہیں: اِلْتَمَّ الناسُ: لوگ اکٹھے ہوئے۔ اللامّۃ: نظر بد، ہر خوف کی چیز۔ کہا جاتا ہے: اُعیــذہ مــن کــل ھامّۃٍ و لامّۃٍ: میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اُسے ہر ضرر رساں جانور اور اندیشہ سے محفوظ رکھے۔ ھو یــزورنا لِمامًا: وہ کبھی کبھی ہمیں ملنے آتا ہے۔ اللَّمُّ (مص): بہت لوگوں کا ہجوم۔ اللَّمَم: قدرے جنون، گناہ کے قریب ہونا مگر مرتکب نہ ہونا، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ الــلَّــمَّۃ: لَمَّ کا اسم مرۃ۔ سختی، مجموعہ، زمانہ۔ کہا جاتا ہے: اصابته لَمَّۃٌ من الجن: وہ مخبوط ہوگیا ہے۔ کہا جاتا ہے: للشیطان لَمَّۃ: شیطان ایک قدم پر ہے، قریب ہے۔ الــلُّمَّۃ: سفر کا ساتھی یا سفر کے ساتھی۔ کہا جاتا ہے: لاتسافروا حتی تصیبوا لُمَّۃً: جب تک ساتھی نہ ملیں سفر نہ کریں، یعنی اکیلے سفر نہ کریں، مونس و غمخوار، (واحد و جمع کیلئے)۔ اللِّمَّۃ جمع لِمَمٌ و لِــمَام: بالوں کی زلف جو کانوں کی لو سے بڑھی ہوئی ہو، پراگندہ بال۔ دارٌ لَمُومَۃ: گھر جس میں لوگ جمع ہوں۔ الــمَلَمّ: سخت۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ مِلَمٌّ: مرد جو لوگوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرے، اپنے لوگوں کو جمع کرنے والا۔ رجُلٌ مِلَمٌّ مِعَمٌّ: لوگوں کے امور کی اصلاح کرنے والا اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے والا۔ الــمُــلِمَّۃ: سخت حادثہ و مصیبت، پکنے کے قریب کھجور۔ المَلْمُوم: پگلا، مخبوط الحواس، اکٹھا کیا ہوا۔ کتیبۃ مَلْمُومَۃ: ایک جگہ اکٹھا کیا ہوا فوجی دستہ۔ صخرۃٌ مَلْمُومۃ: گول اور سخت چٹان

۲۔ لَمَّا: مضارع سے مخصوص ہے اُسے جزم دیتا ہے۔ لَمْ کی طرح مضارع کو نفی کے مفہوم میں لاتا ہے اور ماضی میں بدل دیتا ہے لیکن پانچ باتوں میں اس سے جدا ہے (۱) اس کے ساتھ شرط کا کوئی لفظ نہیں آتا۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاتا: اِن لَمّا تقم بلکہ کہا جاتا ہے: ان لم تقم: اگر وہ کھڑا نہ ہو۔ (۲) اس کی نفی حال تک ممتد ہوتی ہے۔ جب کہ لَمْ کی منفی میں اتصال و انقطاع کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

امکان ہوتا ہے جیسے: لم یکن شیئًا مذکورا: وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اس لئے آپ کہہ سکتے ہیں: لم یکن ثم کان وہ نہ تھا مگر ہو گیا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لَمَّا یکن ثم کان: بلکہ کہا جائے گا: لَمّا یکن و قد یکون: وہ ابھی تک تو نہ تھا مگر ہو سکتا ہے کہ ہو جائے۔ (۳) لمّا کی منفی میں لم کی منفی کے خلاف غالب معنی حال کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں: لم یکن فلانٌ فی العام الماضی وہ گزشتہ سال نہیں تھا۔ جب کہ لما یکن کہنا جائز نہیں۔ (۴) لم کی منفی کے خلاف لمّا کی منفی کا ثبوت متوقع ہے۔ اگر آپ کہیں: لما یدو قوا طعاما یعنی انہوں نے اب تک کھانا نہیں چکھا، لیکن چکھنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ (۵) لمّا کی منفی کا حذف جائز ہے جیسے تحنثُ قبورهم بدءًا او لما یعنی لما اکن بدءًا قبل ذلك میں شروع میں ان کی قبروں کے پاس گیا لیکن اس سے پہلے نہیں گیا۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ وصلت إلی بغداد و لم۔ جب کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ میں بغداد میں داخل نہیں ہوا۔ لما ماضی سے مخصوص ہے اور دو جملوں کا متقاضی ہے، پہلے جملہ کے ہونے کے ساتھ دوسرے جملہ کا ہونا وابستہ ہوتا ہے جیسے: لمّا جاءنی اکرمته جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی عزت کی۔ کہا جاتا ہے اس میں وجود کے لئے صرف وجود ہے۔ بعض کہتے ہیں وجوب کے لئے وجوب ہے۔ کہا گیا کہ یہ دوسرے کے وقوع پر واقع ہونے والے فعل کا ظرف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ ظرف ہے اور حِیْنَ کے معنی میں ہے۔ یہ الاّ کے معنی حرف استثناء کے طور پر بھی آتا ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے: ان کل نفس لما علیها حافظ۔ یعنی اِلاّ علیها حافظ (نہیں کوئی نفس مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ اور ماضی پر لفظاً داخل ہوتا ہے معناً نہیں۔ جیسے: انشدك الله لَمَّا فعلت۔ بمعنی ما أسألك الا فِعْلَكَ: یعنی میں تجھے صرف تمہارے فعل کی قسم دیتا ہوں۔

اللِما (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

۳۔ لَمْلَمَ الحجرَ: پتھر کو گیند کی طرح گول بنانا —— الشیءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تَلَمْلَمَ: (لَمْلَمَ کا مطاوع): یعنی گول ہونا، جمع ہونا۔ اللَمْلَم: ایک جگہ جمع ہونے والا بہت بڑا لشکر۔ اللُمْلُوم: گروہ، جماعت۔ رجُلٌ مُلَمْلَمٌ و جَمَلٌ مُلَمْلَمٌ: گٹھیلے بدن کا آدمی اور گٹھیلے بدن کا اونٹ۔ شَعَرٌ مُلَمْلَمٌ: تیل لگے بال۔ المُلَمْلَمَة: المُلَمْلَم کا مؤنث، ہاتھی کا سونڈ۔

○ لَمَّ ـ لَمًّا ہ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کو دوبارہ متحد کرنا، یکجا کرنا، کو ترتیب دینا، ترتیب سے رکھنا، کی مرمت کرنا۔ لُمَّ: تھوڑا سا پاگل ہونا۔ لَمَّ شعثه: کو دوبارہ ترتیب سے رکھنا، سیدھا کرنا، ٹھیک کرنا، پاؤں پر کھڑے ہونے میں کی مدد کرنا۔ لَمَّ شَمْلَ القطیع: گلہ کو گھیر کر یکجا کرنا۔ اَلَمَّ ب: (تھکاوٹ، خوف کمزوری، مصائب وغیرہ کا) کسی پر نازل ہونا، کو مغلوب کرنا۔ —— ب: کے پاس تھوڑی دیر کے لئے جانا، سے ملاقات کو جانا، کے ہاں ٹھہرنا، رکنا، کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا، (کسی موضوع) پر بحث کرنا، کے بارے میں بات کرنا، پر گفتگو کرنا، بحث مباحثہ کرنا، کا جائزہ پیش کرنا، کو مُخْتَصَر طور پر بیان کرنا، (کسی موضوع) کے متعلق کچھ کہنا، سے واقف ہونا، آگاہ ہونا، کو جاننا، سے آگاہ ہونا، مطلع ہونا، (جرم) کا ارتکاب کرنا، (کھانا، مشروب) لینا، کھانا کھانا، مشروب پینا۔ اِلْتَمَّ اکٹھا ہونا، جمع ہونا، متحد ہونا۔ ...... ہ: سے ملاقات کرنا، سے ملنے جانا۔ لَمَّة جمع لِمَام: مجموعہ، اجتماع، اکٹھ، جمع ہونا، ملاقات، مختصر ملاقات، مصیبت، آفت، ہلکا سا پاگل پن، پاگل پن کا لمس یا اثر۔ لِمَّة جمع لِمَم: گھنگریالے بال، زلف پر شکن، لٹ، بالوں کی لٹ، زلف، گیسو۔ لُمَّة: سفر کرنے والوں کا گروہ، گروہ، رسالہ، لوگوں کی جماعت۔ لَمَم: ہلکا پاگل پن۔ لِمامًا: کبھی کبھی، کبھی کبھار، گاہے گاہے، وقتاً فوقتاً، شاذ ہی، شاذ و نادر۔ اِلمام جمع اِلمامات: طائرانہ نظر، خاکہ، خلاصہ، ملخص، تلخیص۔ لامَة: نظر بد۔ مَلْمُوم: مجتمع، جمع کیا ہوا، اکٹھا کیا ہوا، ایک جگہ مرتکز، ہلکا سا پاگل۔ مُلِمّ بِ: سے مکمل آگاہ، واقف، کا ماہر، ماہر، صاحب نظر، دقیقہ شناس، مبصر، نکتہ رس نقاد، صاحب ذوق۔ مُلِمّ بالقراءۃ و الکتابۃ: پڑھا لکھا، خواندہ۔ مُلِمَّة جمع مُلِمّات: مصیبت، آفت، بدبختی، حادثہ۔ لَمّا: جب، بعد، ہرگاہ، چونکہ، ابھی تک نہیں، نہیں۔ لَمَباجو: درد کمر۔ لَمْبَة: لیمپ (lamp)، ٹیوب (ریڈیو کی)۔

لما: ۱۔ لَمَا ـ لَمْأً هُ و لَمَأ علیه: پر ہاتھ مارنا۔ —— الشیءَ: کو دیکھنا، کو سب کا سب لینا۔ —— به: پر مشتمل ہونا۔ کہا جاتا ہے: ما یَلْمَأ فَمُهُ بکلمةٍ: اس کا منہ اس کی مغلظات کا زیادہ تر حصہ قبول نہیں کرتا۔ اَلْمَأ اللِصُّ علی الشیءِ بالشیءِ: کو چوری سے لے لینا۔ — علی حقه: کے حق سے انکار کرنا۔ — تِ الدوّابُ المکانَ: جانوروں کا جگہ کو خالی چھوڑ دینا۔ کہا جاتا ہے: کان بالارض مرعی فهاجت الدواب فالْمَأتهُ: زمین میں گھاس تھا جانوروں نے اسے کھا لیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ — علی الشیءِ: پر مشتمل ہونا۔ — بما فی الجفنة (بڑے پیالہ کی چیز) پر قبضہ کر لینا۔ کہا جاتا ہے: ما ادری این اَلْمَأ من بلاد الله: مجھے معلوم نہیں کہ وہ اللہ کے کس ملک میں گیا۔ تَلَمَّأ تَلَمُّوءًا ت الارضُ به و علیه: کو زمین کا گھیر لینا، چھپا لینا۔ اِلْتَمَأ هُ و اِلْتَمَأ بما فی الجفنة: (بڑے پیالہ کی چیز) پر قبضہ کر لینا۔ المَلْمُوءَة: وہ جگہ جہاں کوئی چیز پائی جائے یا جہاں سے کوئی چیز لی جائے، جال۔

۲۔ اُلْتُمِیَ لونُ الرجل: مرد کے رنگ کا متغیر ہو جانا۔

لمج: ۱۔ لَمَجَ ـ لَمْجًا الشیءَ: کو منہ کے اطراف سے کھانا۔ تَلَمَّجَ الرجُلُ: غذا سے پہلے کچھ کھانا۔ کہا جاتا ہے: رَأَیتهُ یَتَلَمَّجُ بالطعام: میں نے اسے کھانا چکھتے ہوئے دیکھا۔ اللَمَاج: تھوڑی خوراک۔ کہا جاتا ہے: ما تَلَمَّجْتُ عنده بلماج: میں نے اس کے ہاں کچھ نہیں چکھا۔ اللَمِج: بہت کھانے والا۔ اللُمْجة جمع لُمَج: غذا سے پہلے کا ناشتہ۔ اللَمُوج: تھوڑی خوراک۔ اللَمِیج: بہت کھانے والا۔ المَلامِج: منہ کے اطراف۔

۲۔ کہا جاتا ہے: سَمْجٌ لَمْجٌ و سَمِجٌ لَمِجٌ و سَمِیجٌ لَمِیجٌ: بہت بدشکل۔ رمحٌ مُلَمَّجٌ: آزمایا ہوا نیزہ۔

○ تَلَمَّجَ: ہلکا ناشتہ کرنا۔ لُمْجَة: ہلکا ناشتہ، اشتہا پیدا کرنے والی چیز، چٹنی، اچار، چاٹ۔

لمح: لَمَحَ ـ لَمْحًا البصرُ: نگاہ اٹھنا۔ — الرجُلُ الشیءَ و الی الشیءِ: کو چوری سے دیکھنا، سرسری طور پر دیکھنا۔ اللَمْحَة: سرسری نظر۔ —— الشیءَ بالبصر: پر نگاہ ڈالنا...... لَمْحًا و لَمَحانًا و تَلْمَاحًا النجمُ او البرقُ: ستارہ یا بجلی کا چمکنا، صفت لامِحٌ و لَمُوح و لَمَّاح۔ لَمَّحَ تلمِیحا إلی الشیءِ: کی طرف اشارہ کرنا۔ لامَحَ تهُ: کو چوری سے دیکھنا۔ اَلْمَحَ إلی فلانٍ: کی طرف چوری سے دیکھنا۔ —— الشیءَ: کو دزدیدہ نظر سے دیکھنا، کو چمکانا۔ — الرجُلَ: کو دکھانا۔ اِلْتَمَحَ ہ: کو دزدیدہ نظر سے دیکھنا۔ اُلْتُمِحَ بصرهُ: نظر جاتی رہنا۔ اللامِح (فا): کہا جاتا ہے: هو لامحُ عِطفَیهِ: وہ خود بیں ہے۔ اللُمْح (مص): کہا جاتا ہے: لَاُرِیَنَّكَ لَمْحًا باصِرًا: میں تمہیں واضح معاملہ دکھا کر رہوں گا، اس کا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اکثر استعمال وعدوں کے موقع پر ہوتا ہے۔ اَللَّمْحَة: لَمح کا اسم، الملامح کا مفرد، سرسری نظر۔ کہا جاتا ہے: رأيتُه لَمحةَ البرق: میں نے اسے بجلی چمکنے جتنی دیر دیکھا۔ هـو ابـيـضُ لَمّـاحٌ: وہ بہت سفید ہے۔ المَلامِح لمحة کی جمع: چہرے کے خدوخال، مشابہت۔ کہا جاتا ہے: فی فلان لمحةٌ من ابیه او ملامِحُ من ابیه: فلاں شخص خدوخال میں اپنے باپ کے مشابہ ہے، اس میں اپنے باپ کی مشابہت ہے۔

○ لَمَحَ ـ لَمْحًـا ہ/الی: پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، پر چھچھلتی ہوئی نظر ڈالنا، پر سرسری نظر ڈالنا ــ ہ/ ہ: کو دیکھنا، کا مشاہدہ کرنا، کی طرف توجہ کرنا ــ ان: آگاہ ہونا کہ ــ لَمْحاً و لَمَحاناً و تَلْماحا: دمکنا، چمکنا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا، ٹمٹمانا۔ لَمَّحَ اِلی: کی طرف اشارہ کرنا، چوٹ کرنا، تعریض کرنا کہ اشارۃً کہنا کہ، کچھ یقین دلانا کہ، خیال دلانا کہ، اشارہ کرنا، تلمیح کرنا، کنایہ کرنا، کا ذکر کرنا۔ لاَمَحَ ہ: پر اتفاقی یا دزدیدہ نظر ڈالنا۔ اَلْمَحَ ہ/الی: پر اتفاقیہ یا دزدیدہ نظر ڈالنا۔ لَمْح: سرسری نظر، چھچھلتی نظر، لحہ، آن، لحظ، گھڑی۔ لمح البصر: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر۔ فی لمح البصر، کلمح البصر، دون لمح البصر، فی اقل من لمح البصر: بجلی کی طرح، برق کی طرح، کوندے کی طرح، فوراً، فی الفور، آناً فاناً۔ لمحة: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر، اتفاقی نظر، آنکھ کا اشارہ، روشنی کی دمک، تمتماہٹ، روشنی، چمک، بجلی کا شعلہ۔ فیه لمحة من ابیه: وہ اپنے والد کی طرح نظر آتا ہے، وہ اپنے والد جیسا ہے، وہ اپنے والد کے مشابہ ہے۔ لَمّاح: ٹمٹماتا ہوا، جھلکتا ہوا، جھلک دکھانے والا، چمکتا ہوا۔ مَلامح: خدوخال، چہرہ مہرہ، خصوصیات اوصاف، خارجی مظہر، شکل صورت۔ فیه ملامح من ابیه: وہ اپنے والد کے مشابہ ہے۔ مَلامِح و ظِلال: تصویر کے روشن اور تاریک حصے (Lights and Shades in painting) تلمیحاً: اشارۃً، بالواسطہ۔

لمخ: لَمَخَ ـ لَمْخاً ہ: کو طمانچہ مارنا۔ لاَمَخَ مُلامَخَةً و لِماخاً ہ: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ تَلَمَّخ بکلام قبیح: گندی باتیں کرنا۔

لمد: لَمَدَ ـ لَمْداً ہ: سے انکساری کرنا، عاجزی کرنا۔ اَلْاَلْمَد واللُّمْدان: ذلیل، عاجز۔

لمذ: ا۔ لَمَذَ ـ لَمْذًا: اطراف دہن سے کھانا۔

۲۔ لِـماذا: کیوں؟ کس لئے؟ آخر کیوں؟ آخر کس لئے؟ (لام تعلیل ما استفہامیہ اور ذا اشارہ سے مرکب لفظ)۔

لمز: ا۔ لَمَزَ ـ لَمْزاً ہ: پر عیب لگانا، کی طرف آنکھ وغیرہ سے اشارہ کرنا۔ لاَمَـزَ ہ: سے کنایہ سے بات کرنا۔ اللُّـمَزَة: بہت نکتہ چینی کرنے والا، سامنے عیب جوئی کرنے والا۔ اللَّـمَّاز: چغل خور، عیب گیر، بہت نکتہ چینی کرنے والا۔ اللُّمَّاز: سامنے غیبت کرنے والے

۲۔ لَمَزَ ـ لَمْزاً ہ: کو دور کرنا، ہٹانا، کو مارنا۔

۳۔ لَمَزَ ـ لَمْزاً ہُ الشیبُ: میں بڑھاپا ظاہر ہونا۔

۴۔ تَلَمَّزَ ہ: سے مانگنا ــ فی السیر: رفتار میں تیزی کرنا۔

○ لَمَزَ ـ لَمْزاً ہ: کو آنکھ سے اشارہ کرنا، کی برائی کرنا، میں میخ نکالنا، میں کیڑے نکالنا، کی عیب جوئی کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، پر اعتراض کرنا، پر تنقید کرنا، کو الزام دینا، کو قصوروار ٹھہرانا، کو ملامت کرنا، کی چغلی کھانا، پر تہمت لگانا، کو بدنام کرنا، کو رسوا کرنا۔ لُمَزہ و لَمّاز: نکتہ چین، عیب جو، نکتہ چین، حرف گیر، عیب چین، عیب جو، معترض یا خوردہ گیر نقاد، تنقید نگار یا تبصرہ نگار، عیب نکالنے والا۔

لمس: لَمَسَ ـ لَمْسًا ہُ: کو چھونا ...... الشیءَ: چیز کا چھونے کے قابل ہونا ــ زیداً امرأةً: زید کا کسی عورت سے نکاح کرانا ــ الشیءَ: کو طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: لہ شعاع یکاد یَلْمِسُ البصرَ: اس کی روشنی کی شعاع سے نظر چلی جانے لگتی ہے۔ لاَمَسَ ہُ: ایک دوسرے کو چھونا۔ اَلْمَسَ فلاناً: کی ڈھونڈنے میں مدد کرنا ...... زیداً امرأةً: زید کی کسی عورت سے شادی کرا دینا۔ تَلَمَّسَ الشیءَ: کو بار بار مانگنا۔ اِلْتَمَسَ الشیءَ من فلان: کسی سے چیز طلب کرنا۔ اللَّمْس (مص): چھونے کی قوت۔ کہا جاتا ہے: کَوَاہُ لَمَّاس: اس نے اسے دکھتی جگہ پر چھوا۔ اللَّماسة واللُّماسة: اوسط درجے کی ضرورت۔ اللَّمُوس: منہ بولا بیٹا، حسب میں عیب رکھنے والا۔ اللمیس: نرم و نازک عورت۔ المُلامَسة (مص) فی البیع: کپڑے کو چھو کر بیع کو واجب جاننا۔ اَلْمَلْمَس: چھونا، چھونے کی جگہ۔ المَلْمُوس (مفع): کہا جاتا ہے: اِکاف ملموسُ الاَحْناء: ہموار اور رنگ و روغن کیا ہوا پالان۔ المَلْمُوسات: قوت لامسہ کی مدرکات، پہلی محسوسات۔ صحیفةُ المُتَلَمِّس (متلمس کا خط)، بدشگونی کی مثل، اس خط میں لکھا تھا: جب یہ شخص تمہارے پاس آئے اُسے قتل کر دینا۔ کواہ المُتَلَمِّسة: اس نے اس کی دکھتی ہوئی جگہ پر ہاتھ رکھا۔

○ لَمَسَ ـ لَمْسًا ہ: کو چھونا، کو ہاتھ میں لینا، کو ہاتھ سے محسوس کرنا، کو انگلی سے چھونا، پر ہاتھ پھیرنا، کو ڈھونڈنا، طلب کرنا، کی تلاش کرنا، کو مانگنا ......

ہ/الی: کو دیکھنا، دیکھنا کہ ...... ہ/ان: سے آگاہ ہونا، آگاہ ہونا کہ: لا یُلْمَس: جسے چھوا نہ جا سکے، غیر محسوس۔ لَمَسَ الحقائقَ: معاملات کو اس طرح لینا جیسے وہ ہیں، حقائق کا سامنا کرنا۔ لاَمَسَ ہ/ ہ: سے رابطہ میں ہونا، کو چھونا، محسوس کرنا، پر انگلی رکھنا، چھو کر معلوم کرنا ــ ھا: عورت سے جماع کرنا، صحبت کرنا، کو ہاتھ لگانا۔ تَلَمَّس ہ: کو محسوس کرنا، انگلی سے چھونا، کو چھو کر معلوم کرنا، کو ہاتھوں سے ڈھونڈنا، کو ٹٹولنا، کو اندھوں کی طرح تلاش کرنا، کو تلاش کرنا، کو طلب کرنا۔ تَلامَسَ: ایک دوسرے کو چھونا، باہم رابطہ میں ہونا۔ اِلْتَمَسَ ہ من: کی سے درخواست کرنا۔ ل: (کے لئے) ــ ہ من: کو سے مانگنا، طلب کرنا۔ ہ ل: کا کیلئے خواستگار ہونا، طالب ہونا ــ ہ: کو مانگنا، کی نہایت تاکید سے درخواست کرنا، کو تلاش کرنا، طلب کرنا ــ ہ/ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ لَمْس: محسوس کرنا، ٹٹولنا، چھونا، لمس، رابطہ۔ حاسة اللمس: چھونے کی حس، قوت لامسہ۔ لَمْسِي: لمس کے قابل، چھونے کے قابل، محسوس، قوت لامسہ سے متعلق۔ لُمْسِية: کھجور جو ابھی پوری طرح نہ پکی ہو۔ لُمْسة جمع لُمْسات: نوک پلک درست کرنا۔ مَلْمَس: کیڑوں کے منہ کے بال یا روئیں جن سے وہ چھوتے اور ٹٹولتے ہیں، لمس، رابطہ، چھونے کی جگہ، چھوئی ہوئی جگہ، رابطہ کی جگہ۔ ناعمُ الملمس: چھونے میں نرم۔ مَلْمَسي بمعنی لَمْسِي۔ مَلْمُوس: چھوا ہوا، محسوس، چھونے کے قابل۔ مَلْمُوسات: محسوس اشیاء، چھونے سے قابل فہم یا قابل ادراک چیزیں۔ مُلْتَمَس جمع مُلْتَمَسات: درخواست، عرضی۔

لمص: ا۔ لَمَصَ ـ لَمْصًا العسلَ و شِبْهَهُ: شہد اور شہد جیسی کوئی چیز انگلیوں کے کنارے سے چاٹنا ــ فلاناً: کی چٹکی لینا۔ اَلْمَصَ الشجرُ: درخت کا انگلی سے پکڑنے کے قابل ہونا۔

۲۔ لَمَصَ ـ لَمْصًا فلاناً: کی نقل اتارنا، پر عیب لگانا، کا منہ چڑانا۔ اللَّمْص (مص): لوگوں کی غیبت کرنا۔ اللَّمُوص: جھوٹا، فریبی، غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا۔

۳۔ لَمَصَ ـ لَمْصًا الصبیُّ: بچہ کا پیشاب کرنا۔

۴۔ اَلْمَصَ الکرمُ: انگور کی بیل کا نرم انگوروں والی ہونا۔

○ لَمَصَ ـ لَمْصاً ہُ: کو کوسنے دینا، کو برا بھلا کہنا، پر منہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بنانا۔

لمط: لَمَطَ ـ لَمْطًا ہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ فلانٌ: مضطرب ہونا۔ اِلْتَمَط بحقي: اس نے میرا حق لے لیا۔

لمظ: ا۔ لَمَظَ ـ لَمْظًا: کھانے پینے کے بعد زبان کو ہونٹوں پر پھیرنا، کھانے کے بعد زبان سے دانتوں میں پھنسے ہوئے کھانے کا کھوج لگانا۔ ـــ الماءَ: پانی کو زبان کے کنارے سے چکھنا۔ ـــ فلانًا من حقِهٖ: کسی کو اس کے حق میں سے بہت تھوڑا دینا۔ لَمَّظَہٗ من حقه: کو اس کے حق میں سے بہت تھوڑا دینا۔ کہا جاتا ہے: لَمَّظَ فلانا لُماظةً: اس نے کسی کو تھوڑی سی چیز کا باقیماندہ حصہ چکھایا۔ اَلْمَظَ ہٗ: کے ہونٹوں پانی ڈالنا۔ ـ فلانًا: کو نیزے سے تھوڑی سی ضرب لگانا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کے نچلے ہونٹ کا سفید ہونا۔ تَلَمَّظَ الرجُلُ: اپنی زبان ادھر ادھر پھیرنا، کھانے کے بعد زبان سے دانتوں میں پھنسے ہوئے کھانے کا کھوج لگانا۔ کہا جاتا ہے: تَلَمَّظَ بِذِكرِهٖ: اس نے اس پر عیب لگایا۔ ـــ تِ الحيّةُ: سانپ کا اپنی زبان باہر نکالنا۔ اِلْتَمَظَ بشفتيه: ہونٹوں کو ملا کر آواز نکالنا۔ ـــ الطعامَ: کھانا کھانا۔ ـــ بحقه: کا حق لے لینا۔ ـــ الشيءَ: چیز کو جلدی سے منہ میں ڈالنا۔ اللَمَظ: گھوڑے کے نچلے ہونٹ کی سفیدی۔ اللَمَاظ: چکھنے کی چیز۔ کہا جاتا ہے: مالہ لَمَاظٌ: اس کے پاس چکھنے کو کچھ نہیں۔ ما ذقتُ لَمَاظًا: میں نے کچھ نہیں چکھا۔ شربہٗ لَمَاظًا او لِماظًا: کو زبان کے کنارہ سے چکھنا۔ اللُماظة: منہ میں کھانے کا باقیماندہ حصہ، تھوڑی چیز کا باقی حصہ۔ کہا جاتا ہے: ما الدنيا الا لُماظةُ ايامٍ: دنیا محض (چند دنوں کی) تھوڑی سی چیز ہے۔ اللُمْظَة: گھی وغیرہ کی تھوڑی سی مقدار جو انگلی سے اٹھائی جا سکے، گھوڑے کے نچلے ہونٹ کی سفیدی یا دونوں ہونٹوں کی سفیدی، دل کا سیاہ نقطہ۔ الاَلْمَظ من الخيل: نیچے کے ہونٹ میں سفیدی رکھنے والا گھوڑا۔ مَلاَمِظُ الانسان: ہونٹوں کا اردگرد۔ المُتَلَمِّظ: متبسم۔

۲۔ اَلْمَظَ البعيرُ بذنبهٖ: اونٹ کا دم کو ٹانگوں کے اندر دبانا۔ ـــ ہٗ على فلان: کو کسی پر غصہ دلانا۔ اِلْتَمَظَ بالشيء: میں لپٹنا۔

۳۔ اَلْمَظَ الرجُلُ القوسَ: کمان پر تانت باندھنا۔

۴۔ اللَماظة: فصاحت، چرب زبانی۔ اللَماظة (ط): نُقل جو شروب کے ساتھ پیش کیا جائے۔ عوام اسے ماظه کہتے ہیں۔ التِلِمّاظ م تِلِمّاظة: دوستی پر ثابت قدم نہ رہنے والا۔ التِلِمّاظة: بڑھانکنے والی، بچوں کی سی باتیں کرنے والی، بک بک کرنے والی۔

○ لَمَظَ ـ لَمْظًا: ہونٹ چاٹنا، زبان پھیرنا۔ تَلَمَّظَ: ہونٹ چاٹنا، زبان پھیرنا۔ تَلَمَّظ بِذِكرِهٖ: کی غیبت کرنا، کی برائی کرنا۔

لمع: ا۔ لَمَعَ ـ لَمْعًا و لَمَعانًا و لُموعًا و لَمِيعًا و تِلِمّاعًا البرقُ وغيره: بجلی وغیرہ کا چمکنا۔ ـ بيده او بثوبه او بسيفه: ہاتھ، کپڑے یا تلوار سے اشارہ کرنا۔ ـ الطائر...... بجناحيه: پرندے کا بازو پھڑ پھڑانا۔ ـــ ضرعُ الناقة: اونٹنی کے تھن کا دودھ اترنے کے وقت رنگین ہونا۔ ـ فلانٌ الباب: دروازے سے نکلنا۔ ـــ فلانٌ بالشيء: کو لے جانا۔ لَمَّعَ النسجَ: کپڑے کو مختلف رنگوں کا بننا۔ اَلْمَعَ الفرسُ و نحوها: گابھن ہونے کی وجہ سے گھوڑی وغیرہ کے تھن کا چمکنا اور سر پستان کا سیاہ ہو جانا۔ ـ تِ الشاةُ بذنبها: بکری کا دم اٹھانا تاکہ معلوم ہو کر وہ گابھن ہو گئی ہے صفت مُلْمِعة و مُلْمِع۔ ـ ت الانثى: مادہ کے پیٹ میں بچے کا حرکت کرنا۔ ـــ إلى فلان بثوبه: کو کپڑے سے اشارہ کرنا۔ ـــ الطائرُ بجناحيه: پرندے کا بازو پھڑ پھڑانا۔ ـ ت البلادُ: ملک کا خشک گھاس والا ہونا یا کثرت سے گھاس والا ہونا۔ ـــ فلانٌ بالشيء و عليه: کو چرا کر لیجانا، کو غبن کرنا، خورد برد کرنا، میں خیانت کرنا۔ تَلَمَّعَ البرقُ وغيرہٗ: بجلی وغیرہ کا چمکنا، روشن ہونا۔ ـ الشيءَ: کو غبن کرنا، خورد برد کرنا، میں خیانت کرنا، کو چرا لینا۔ اِلْتَمَعَ البرقُ وغيره: بجلی وغیرہ کا روشن ہونا، چمکنا۔ ـ الشيءَ: کو غبن کرنا، میں خورد برد کرنا، میں خیانت کرنا، کو چرا لینا۔ ـ القومَ: کو لیجانا۔ ـ واُلْتُمِعَ لونُهٗ: کا رنگ اڑنا، متغیر ہونا۔ اللامع جمع لُمَّع (فا): کہا جاتا ہے: ما بالدار لامعٌ: گھر میں کوئی نہیں۔ اللامِعة جمع لَوامِع: لامع کا مونث۔ کہا جاتا ہے: ذهبت نفسُهٗ لِماعًا: اس کی جان تھوڑا تھوڑا کر کے نکل گئی۔ اللُمْعَة جمع لُمَع و لِماع: پودے کا مرجھایا ہوا حصہ، سیاہی کا دھبہ، اصلی رنگ سے مخالف رنگ۔ ـــ من الجسد: جسم کے رنگ کی چمک۔ اللَمّاع: لامع کا اسم مبالغہ، بہت چمکدار۔ اللَمّاعة: سراب والا بیابان (ح): عقاب۔ اللَمُوع: چمکدار (ح) عقاب۔ الاَلْمَع و الاَلْمَعِيّ: ذکی، تیز ذہن آدمی۔ الاَلْمَعِيّة: ذکاوت۔ التَلْمِيع جمع تلاميع في الخيل وغيرها: گھوڑوں وغیرہ کے جسم پر دھبے ہونا جو جسم کے رنگ کے مخالف ہوں، کہا جاتا ہے: فیہ تَلْمِيعٌ و تلاميعُ: اس میں کئی رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ خدٌّ مُلْمَع: چمکدار رخسار۔ مِلْمَعا الطائر: پرندے کے بازو۔ ارضٌ مُلْمِعة: زمین جہاں سراب چمکتا ہو۔ المُلَمَّع من الخيل وغيرها: اصل رنگ سے مخالف رنگ کا داغ رکھنے والا گھوڑا وغیرہ۔ ارضٌ مِلْمَعة و مُلْمَعة: زمین جہاں سراب چمکتا ہو۔ اليَلْمَع جمع يلامِع: بے بارش کی بجلی، سراب کہا جاتا ہے: فلانٌ اَكذَبُ مِن يَلْمَع: وہ سراب سے زیادہ جھوٹا ہے، جھوٹے کو اس سے تشبیہ دے کر کہا جاتا ہے: انما هو يَلْمَعٌ: وہ تو ہے ہی جھوٹا۔ ـــ من السلاح: چمکنے والا ہتھیار جیسے خود و زرہ۔ اليَلْمَعِيّ: ذکی، تیز فہم، سچ جھوٹ ملانے والا۔

۲۔ اللامِعة جمع لَوامِع: بچے کی نرم چندیا۔ اللُمْعَة جمع لُمَع و لِماع: لوگوں کا ایک گروہ، زندگی کا تھوڑا سا گزارہ۔ کہا جاتا ہے: معه لمعة من العيش: اس کے پاس گزران کے لئے اتنا ہے جس سے وہ مطمئن ہو سکے۔ اللَمّاعة: بچہ کی نرم چندیا۔

○ لَمَعَ بسيفه: تلوار ہلانا۔ لمع بيده: ہاتھ ہلانا، لہرانا۔ لمع في رأسه خاطرٌ: اس کے ذہن میں یکا یک آیا، بجلی کی طرح خیال وغیرہ کوند گیا۔ لَمَّعَ ہٗ: کو چمکانا، جگمگانا یا ٹمٹمانا، کو چمک دینا، کو رگڑ کر صاف کرنا، صیقل کرنا، جلا دینا۔ اَلْمَعَ: ہاتھ لہرانا۔ ـ إلى: کو واضح کرنا، کا خیال دلانا، بتانا، کہنا، مطلع کرنا، تعریض کرنا، کی طرف اشارہ کرنا۔ اِلْتَمَعَ: چمکنا، دمکنا، ٹمٹمانا، شعاعیں نکلنا۔ لَمْع و لَمَعان: چمک دمک، ٹمٹماہٹ، جھلک، تمتماہٹ، سرخی، روشنی۔ لُمْعَة جمع لُمَع و لِماع: تمتماہٹ، جھلک، چمک، شعلہ، تابانی، آب و تاب، طباعی، ذہانت، درخشانی، تابندگی، تنویر، کرن، شعاع، تبسم، مسکراہٹ، چمکتی ہوئی سطح، چمک دمک، شان و شکوہ، صیقل، جلا، کچھ، تھوڑا سا۔ لَمّاع: چمکدار، چمکیلا، درخشاں، تابندہ، ذہین، فطین، طباع، چمکتا، دمکتا، روشن، منور، تاباں، بھڑکیلا، دودھیا کیا ہوا، صیقل کیا ہوا، پالش کیا ہوا، مشین میں دبا کر شکن وغیرہ درست کیا ہوا (calendered)۔ جلد لماع: صاف چمڑا (patent leather)

لمق: ا۔ لَمَقَ ـ لَمْقًا و لُموقًا ہٗ: کو لکھنا۔

۲۔ لَمَقَ ـ لَمْقًا و لُموقًا ہٗ: کو مٹانا۔ ...... عينَهٗ: کی آنکھ پر تھپڑ مارنا، آنکھ پر کوئی چیز پھینکنا، آنکھ کانی کرنا۔

۳۔ لَمَقَ ـ لَمْقًا و لُموقًا اليه: کی طرف دیکھنا۔ ...... اليه ببصره: پر نظر ڈال کر اس کو دیر تک دیکھنا۔

ـ تَلَمَّقَ: کو چکھنا۔ اللَماق: تھوڑی سی چکھنے کی چیز۔ کہا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جاتا ہے: ماذقتُ لَمَاقًا: میں نے کچھ نہیں چکھا۔ ما بالارض لَمَاقٌ: زمین میں چراگاہ نہیں۔
۵۔لَمَقُ الطریق: راستے کا بیچ۔کہا جاتا ہے: اخذ فی لَمَقِ الطریق: وہ راستے کے درمیان چلا۔الیَلْمَق: روئی دار قبا۔

لمك: لَمَكَ ۓ لَمْكًا العجینَ: آٹا نرم گوندھنا۔تَلَمَّكَ البعیرُ: اونٹ کا جبڑوں کو ہلا ہلا کر کھانا۔اللَّمَاك: چکھنے کی چیز (صرف نفی میں مستعمل ہے) کہا جاتا ہے: ماتَلَمَّكَ بِلَمَاكٍ: اس نے کچھ نہیں چکھا۔ واللُّمَاك و اللَّمْك: سرمہ۔اللَّمِیْك: سرگین آنکھوں والا۔الیَلْمَك: قوی جوان (یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔اس میں ی زائد ہے)۔

○ لَمْلَمَ ہ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔مُلَمْلِمَة: ہاتھی کی سونڈ۔

لمو: لَمَا یَلْمُو لَمْوًا الشیءَ: سب لے لینا۔اللُّمَة جمع لُمَات: گروہ، تین سے دس تک کی تعداد کے ساتھی، ہم عمر ہم شکل، نمونہ۔

لمی: ا۔لَمَی یَلْمِی لَمْیًا و لَمِیَ یَلْمَی لَمًی الغلامُ: لڑکے کا سیاہ ہونٹوں والا ہونا۔صفت اَلْمَی مونث لَمْیَاء۔اِلْتَمِیَ اِلتماءً لونُہٗ: کے رنگ کا متغیر ہونا۔ اللَّمَی و اللِّمَی و اللُّمَی: ہونٹ کے اندرونی حصہ میں سیاہی یا گندمی رنگ جسے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ الأَلْمَی م لَمْیَاء جمع لُمْیٌ: سیاہ یا گندمی رنگ کا ہونٹ رکھنے والا۔رمحٌ اَلْمَی: مضبوط گندم گوں نیزہ۔ظِلٌّ اَلْمَی: گھنا سیاہ سایہ۔شجرٌ اَلْمَی: گھنے سایہ کا درخت۔غلامٌ اَلْمَی: ٹھنڈے تھوک والا لڑکا۔لِثَّةٌ لَمْیَاء: کم خون یا کم گوشت والا مسوڑھا۔
۲۔اَلْمَی اِلْماءً اللِصُّ بکذا: کو چرا کر لیجانا، چرانا۔ تَلَمَّتِ الارضُ بہ و علیہ: زمین اس پر حاوی ہوگئی۔اِلْتَمِیَ اِلتماءً بہ: پر اکیلے قبضہ کرنا۔

لن: لَنْ: حرف مضارع کو نصب دیتا ہے اور مستقبل منفی کا معنی دیتا ہے۔نحو: لَنْ اَفعَلَ المنکر مابقیت: جب تک زندہ رہا برا کام نہیں کروں گا۔دعا کے معنی میں بھی آتا ہے: لَنْ تزالوا ملجأ الفقیر: ہمیشہ اس فقیر کے ملجا و ماوی بنے رہو۔

○ جَدِیْدٌ لَنج: بالکل نیا (brandnew) لُنْدَرہ: لنڈن۔لَنْدَن: لنڈن (برطانیہ کا ایک شہر)۔لَنْش جمع لَنْشَات: لانچ (launch)، چھوٹا سٹیمر، موٹر بوٹ۔ لِیْنِنْغراد: لینن گراڈ (روس کا ایک شہر)۔

لہٰ: ا۔لَہَّ ۓ لَہًّا الشِعْرَ: اچھے عمدہ شعر کہنا۔
۲۔لَہْلَہَ لَہْلَہَةً النَسَّاجُ الثوبَ: جولاہے کا کپڑا باریک بننا۔(ھَلْھَلَة کا الٹ ہے)۔تَلَہْلَہَ الثوبُ: کپڑے کا باریک بنا جانا۔۔۔۔۔۔الکلاءُ: تھوڑی سی گھاس کے درپے ہونا۔اللُّہْلُہَ من الثیاب والکلام و الشِعر: ردی کپڑا، کلام یا شعر۔اللُّہْلُہ جمع لَہَالِہ: کشادہ زمین جس میں سراب دور سے تھرّاتا نظر آئے۔بلدٌ لُہْلُہٌ: وسیع ملک جس میں سراب بڑھتا ہوا نظر آئے۔اللُّہْلُہَہ: کپڑے کی کمزوری۔اللُّہْلُہَة: کشادہ زمین۔
۳۔اللُّہْلُہ جمع لَہَالِہ: بدشکل۔اللَّہْلَہَة: کسی بات سے رجوع۔

لہب: ا۔لَہِبَ ۓ لَہَبًا و لَہَبًا و لَہِیبًا و لُہَابًا و لَہَبَانًا ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔لَہَبًا و لَہَبَانًا الرجُلُ: پیاسا ہونا صفت لَہْبَان۔لَہَّبَ النارَ: آگ بھڑکانا۔ اَلْہَبَ النارَ: آگ بھڑکانا۔الفرسُ: گھوڑے کا دوڑ کر گردوغبار اٹھانا۔البرقُ: بجلی کا مسلسل کوندنا۔ فی الکلام: کو جلدی سے کہہ ڈالنا۔کہا جاتا ہے: اَلْہَبَہٗ للامر: کو پر بھڑکانا، مشتعل کرنا۔تَلَہَّبَ ت النارُ: آگ کا بھڑک اٹھنا۔کہا جاتا ہے: فلان یَتَلَہَّبُ جوعًا: فلاں شخص بھوک سے بھڑک رہا ہے۔اِلْتَہَبَ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔علیہ: پر غضبناک ہونا اور غصہ سے جلنا۔کہا جاتا ہے: فلانٌ یَلْتَہِبُ جُوعًا: فلاں شخص بھوک سے جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے۔اللَّہَب (مص): آگ کا شعلہ، بلند گردوغبار۔اللُّہَاب (مص): پیاس۔اللَّہَبَانُ (مص): گرمی کی شدت، گرم دن، پیاس۔اللُّہْبَة: پیاس، خالص سفیدی، عوام اس لفظ کو شعلہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔اللَّہِیب (مص): آگ کی تپش، آگ کی گرمی، جلتے ہوئے جسموں سے نکلنے والا سیال مادہ۔الاُلْہُوب: گھوڑے کی تیز رفتاری جس سے گردوغبار اٹھے یا کھر سے آگ نکلے۔الاِلْتِہَاب (طب): سوجن، آماس۔المُلْہِب: تیز رفتار گھوڑا جو دوڑتے ہوئے گردوغبار اٹھائے۔المُلَہَّب: نہایت خوبصورت، گھنے بالوں والا۔المُلَہَّب من الثیاب: کم سرخی والا کپڑا۔
۲۔اللُّہَابَة: ایک قسم کی چادر جس میں پتھر رکھ کر بوجھ یا ہودج کی ایک طرف کو نیچا کیا جاتا ہے۔اللِّہْب جمع اَلْہَاب و لُہُوب و لِہَاب و لِہَابة: دو پہاڑوں کے درمیان کی کشادگی یا پہاڑ کی دراڑ۔

○ لَہِبَ ۓ لَہَبًا و لَہَبًا و لُہَابًا و لَہِیبًا و لَہَبَانًا: مشتعل ہونا، بھڑک اٹھنا، جل اٹھنا، جلنا، آگ بگولا ہو جانا، جوش میں آنا، طیش میں آنا، روشن ہونا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا۔لَہَّبَ و اَلْہَبَ ہ: کو جلانا، سلگانا، آگ لگانا، مشتعل کرنا، بھڑکانا جذبات برانگیختہ کرنا، روشن کرنا، تپانا، کو برانگیختہ کرنا، اُکسانا، جوش میں لانا، حرکت دینا، ہلانا، طیش میں لانا۔تَلَہَّبَ بمعنی لَہِبَ: تیز شعلہ زن ہونا، مشتعل ہونا، جلتا ہوا ہونا، شعلہ فشاں ہونا، ملتہب ہونا، جلنا (مجازاً رخساروں، غصہ، پیاس وغیرہ کا) جلنا، بھڑکنا، آگ بگولا ہونا، (پیاس کیلئے) تڑپنا۔اِلْتَہَبَ بمعنی تَلَہَّبَ: تیز آگ پکڑ لینا، بھڑک اٹھنا، لال پیلا ہونا، سوزش ہونا۔ لَہَب و لَہِیب و لُہَاب: لو، بھوکا، شعلہ، لپٹ، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑک، جوش، اشتعال، آب و تاب، جھلملاتی ہوئی تیز روشنی۔لَہْبَان مونث لَہْبَی جمع لِہَاب: جس کے حلق میں پیاس سے کانٹے پڑ گئے ہوں۔اِلْہَاب: آگ سلگانا، جلانا، آگ لگنے سے بھڑکنا، جل اٹھنا، آتش گیری، آتش زنی، ورم، اُماس، سوزش، جلن۔اِلْتِہَابُ الشُعَب: حلق کی سوجن، نرخرے کی نالیوں کا ورم (bronchitis)۔اِلْتِہَابِی: سوزاں، محرق، آتش افروز، اشتعال انگیز، برانگیختہ کرنے والی (تقریر وغیرہ) سوزش اور ورم پیدا کرنے والی، آتش گیر، جلد بھڑک اٹھنے والا، تند مزاج، شعلہ خو۔قطنٌ مُلْتَہِب: تیزابی روئی، بارودی روئی (guncotton)۔

لہت: اللاھوت: اللہ، خدا، رب، دیو، دیوتا، دیوی۔ عِلْمُ اللاھوت: علم الٰہی، علم ذات، علم معرفت، دینیات، علم کلام۔اللاھوتی: علم الٰہی کا، علم معرفت کا، دینیات کا، دینیاتی، عالم دین، ماہر دینیات، متکلم۔

لہث: لَہَثَ ۓ لَہْثًا و لُہَاثًا الکلبُ وغیرہٗ: پیاس یا تھکن کی وجہ سے کتے وغیرہ کا ہانپ کر زبان نکالنا۔ لَہِثَ ۓ لَہَثًا و لُہَاثًا الکلبُ وغیرہ: بمعنی لَہَثَ۔لَہَثًا و لَہَثَانًا و لَہَاثًا الرجلُ: پیاسا ہونا صفت مذکر: لَہْثَان صفت مؤنث لَہْثَی۔اِلْتَہَثَ الکلبُ: بمعنی لَہَثَ۔اللُّہَاث (مص): پیٹ میں پیاس کی گرمی، موت کی شدت۔کہا جاتا ہے: ھو یقاسی لُہَاثَ الموت: وہ موت کی سختی سے دوچار ہے۔اللُّہْثَة: پیاس، تھکاوٹ، تھکن۔

○ لَہَثَ ۓ لَہْثًا و لُہَاثًا: پیاس یا تھکن سے زبان باہر نکالنا، ہانپنا، کی سانس پھولنا، مشکل سے سانس لینا۔ لُہَاث: ہانپنا، سانس پھولنا۔لُہَاثُ الموت: نزع کا غرغرہ، موت کی اذیت۔لَہْثَان م لَہْثَی: ہانپنے والا، پھولی ہوئی سانس والا، پیاسا، پیاس یا تھکن سے زبان باہر نکلنے والا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لہج: ۱۔ لَہِجَ ـ لَہَجًا بالشیء: کا شیفتہ ہونا، صفت لَہِج و لَاہِج۔ الفصیل امّہٗ: جانور کے بچے کا ماں کے تھنوں کو چوسنا۔ الفصیل بِقِیہ: جانور کے بچے کا ماں کا دودھ پینے کا عادی ہونا۔ صفت لَاہِج۔ اَلْہَجَ فلانًا بالشیء: کو کسی چیز کا شیفتہ بنانا۔ الرجُلُ: اپنی ماؤں کے دودھ پینے کے عادی بچوں والا ہونا۔ — لتصیل: بچے کے منہ میں لکڑی باندھنا تاکہ دودھ نہ پی سکے۔ اَلْہِجَ بالشیء: کا شیفتہ ہونا۔ اللہْجَة: زبان یا نوکِ زبان، مادری زبان۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ فصیحُ اللہجةِ و صادقُ اللہجةِ فلاں شخص زبان کا فصیح یا سچا ہے۔ المُلْہَج (مفع): سونے والا، کام نہ کر سکنے والا۔

۲۔ لَہَجَ القومَ: لوگوں کو ناشتہ کھلانا۔ اللُّہْجَة: ناشتہ۔

۳۔ لَہْوَجَ اِلْہِیجَاجًا الشیءُ: چیز کا خلط ملط ہونا۔ —ت عینہ: کی آنکھ کا نیند سے بند ہونا، اونگھنا۔ — اللبنُ: دہی کا پوری طرح نہ جمنا۔

۴۔ لَہْوَجَ الشیءَ: کو خلط ملط کرنا، ملانا۔ — الامرَ: کام کو مستحکم نہ کرنا، ادھورا کرنا۔ — الشواءَ: گوشت کو اچھی طرح نہ بھونا، نیم پختہ رکھنا۔ شِواءٌ مُلَہْوَج: اچھی طرح نہ بھنا ہوا گوشت۔ کہا جاتا ہے: حدیثٌ مُلَہْوَجٌ و رأیٌ مُلَہْوَجٌ: غیر محکم بات اور رائے۔ تَلَہْوَجَ الشیءَ: کی جلدی کرنا۔ — اللحمَ: گوشت کو نیم پختہ رکھنا اچھی طرح نہ بھونا۔

۵۔ تَلَہْجَمَ بالشیء: کا مشتاق ہونا۔ — الطریقُ: راستے کا واضح نشان والا ہونا۔ اللُّہْجُم: کشادہ، چلتا ہوا راستہ، بڑا گھونسلا۔

○ لَہِجَ ـ لَہَجًا ب: کیلئے وقف ہونا، مخصوص ہونا، سے لگاؤ ہونا، کا بہت شائق ہونا، دلدادہ ہونا، کا عاشق ہونا، پر تلا ہوا ہونا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، کا خواہاں، متمنی یا آرزومند ہونا، کے لئے سرگرم ہونا، کے پیچھے پاگل ہونا، کو ہمیشہ یا جوش اور ولولے سے کرنا۔ لَہِجَ بالثناء علیہ: کی تعریف کے پل باندھنا، جوش اور ولولے سے کی تعریف وستائش کرنا۔ لَہِجَ بذکرہ: کا ہمیشہ ذکر کرنا، تعریف کے ساتھ مسلسل کسی کا نام لینا۔ لہج بشکرہ: کا بہت بہت شکریہ یا تعریف کرنا۔ لہج بالضراعة: عاجزانہ معذرتوں سے کام لینا۔ اَلْہَجَ لِسانَہ بالشکر: سے بہت بہت شکریہ کہلوانا۔ اِلْہَاجَّ: دودھ جمنا، دہی جمنا۔ لہجة: نوکِ زبان، زبان، اندازِ تکلم، لہجہ، طرزِ سخن بولی، مقامی زبان، مخصوص علاقہ کی بولی، بھاشا۔ بلہجة العاتِب: ملامت آمیز طریقے سے، سرزنش کے طور پر، ملامت آمیز لہجہ میں۔ شدیدُ اللہجة: شدید یا سخت زبان میں، سخت لفظوں میں لکھا ہوا۔ لُہْجَة: اشتہا انگیز چیز، بھوک تیز کرنے والی چیز (appetizer)۔

لہد: ۱۔ لَہَدَ ـ لَہْدًا ہٗ الحِملُ: کو (بوجھ کا) بوجھل کرنا اور دبانا صفت مفعول: مَلْہُود و لَہِید۔ — دابّتَہٗ: جانور کو تھکا کر دبلا کرنا۔ — فلانًا: کو ذلت کی وجہ سے ہٹانا، دور کرنا، دھکیلنا پستانوں یا مونڈھوں کی جڑ میں مارنا یا چبھونا، کو آنکھ مارنا یا آنکھ سے اشارہ کرنا۔ لَہَّدَ فلانًا: کو خوب دبانا۔ اَلْہَدَہٗ: پر ظلم کرنا۔ — الی الارض: بوجھ سے زمین کی طرف جھکنا۔ — بہ: کو ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا۔ — بفلان: ایک آدمی کو پکڑ کر دوسرے آدمی کو اسے مارنے دینا۔ اللَّہْد (مص): ناپسندیدہ مرد، اونٹوں کی چھاتیوں میں چوٹ وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی شگافتگی، لوگوں کی ٹانگوں اور رانوں میں پیدا ہونے والا مرض۔ اللَّہِید (جانور) جس پر زیادہ بوجھ لدا ہوا ہو یا وہ تھکا ہوا ہو۔ المُلَہَّد (مفع): رجُلٌ مُلَہَّدٌ: کمزور، ذلیل وحقیر، دروازوں پر دھکے دیا ہوا۔

۲۔ لَہَدَ ـ لَہْدًا الشیءَ: کو کھانا یا چاٹنا۔ اللَّہِیدَة: ایک قسم کا نرم حلوا۔

۳۔ اللُّہاد: ہچکی، سسکی، سکی، ٹھنڈی سانس۔

○ لَہَدَ ـ لَہْدًا ہٗ: پر بہت زیادہ بوجھ لادنا، کو حد سے زیادہ زیر بار کرنا، سے زیادہ محنت کرانا۔

لہذ: ۱۔ اللَّہْذَب: ہمیشہ رہنے والی چیز۔

۲۔ لَہْذَمَہٗ: کو کاٹنا۔ تَلَہْذَمَہٗ: کو کاٹنا۔ ...... الشیءَ: کو کھانا۔ ...... اللَّہْذَم جمع لَہَاذِم و لَہَاذِمَة: تیز کاٹنے والی تلوار، بھالا، دانت وغیرہ۔ اللَّہَاذِمَة: چور (جمع کے طور پر)۔

○ لَہْذَم: تیز، نوکیلا، نوکدار۔

لہز: ۱۔ لَہَزَ ـ لَہْزًا الشیءُ فلانًا: کسی شی کا کسی کے اندر ظاہر ہونا۔ — القومَ: لوگوں میں مل جل جانا۔ — ہٗ الشیبُ: پر بڑھاپا ظاہر ہونا۔ صفت مَلْہُوز۔ — ہٗ بالرمح: کے سینہ میں نیزہ مارنا۔ — فلانًا: کو مکا مارنا یا کو کان کے نیچے کی ہڈی اور گردن پر مکا مارنا۔ — الفصیلُ ضرعَ اُمِّہ: بچے کا دودھ پیتے وقت اپنی ماں کے تھنوں پر ٹکر مارنا۔ لَہَّزَ تَلْہِیزًا ہٗ: کو کان کے نیچے کی ہڈی اور گردن پر مکا مارنا۔ اللَّاہِز (فا): پہاڑ اور ٹیلہ جو راستہ کو تنگ اور دشوار گزار بنا دیں، دو پہاڑ جب اس قدر قریب ہوں کہ بیچ میں ایک گلی کی طرح فاصلہ رہ جائے تو دونوں پہاڑوں کو لَاہِزَان کہتے ہیں۔ اللَّہِز: سخت۔ اللِّہَاز: حج وغیرہ کے سوا کسی چیز کی کوشش کرنے کا حوصلہ یا پہنچ۔ اللَّہْزَمَة: جبڑے کی ابھرتی ہوئی ہڈی۔ المِلْہَز: جبڑے کی ہڈی اور گردن پر مکا مارنے والا۔ المَلْہُوز (مفع): گٹھے بدن والا، جبڑے کی ہڈی پر داغ لگا ہوا۔

۲۔ لَہْزَمَہٗ: کی جبڑے کی ابھرتی ہوئی ہڈیاں کاٹنا۔ — الشیبُ خدَّیہ: کے رخساروں پر سفید بال ظاہر ہونا۔ اللِّہْزِمَة جمع لَہَازِم: کان کے نیچے، جبڑے کی ابھری ہوئی ہڈی، یہ دو ہوتی ہیں جنہیں لِہْزِمَتان کہا جاتا ہے۔

لہس: ۱۔ لَہَسَ ـ لَہْسًا الشیءَ: کو چاٹنا۔ — الصبیُّ ثدیَ امہ: بچے کا اپنی ماں کے پستان کو بے چوسے چاٹنا۔ — علی الطعام: کھانے پر لالچ کی وجہ سے بھیڑ کرنا۔ لَاہَسَ مُلَاہَسَةً علی الطعام: کھانے پر ٹوٹ پڑنا، کھانے پر بھیڑ کرنا۔ — القومُ الی الشیء: کی طرف جانے میں تیزی کرنا اور بھیڑ کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ یلاہس بنی فلان: فلاں شخص فلاں قبیلہ کے لوگوں کے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللَّاہِس جمع اللَّوَاہِس کا واحد، پھرتیلا، چست۔ اللُّہْسَة: چاٹنے کے قابل چیز۔ کہا جاتا ہے: مالك عندی لُہْسَةٌ: میرے پاس تمہارے لئے کوئی چیز نہیں۔ اللُّہَاس و اللُّہَاسَة: تھوڑا سا کھانا۔

۲۔ لَہْسَمَ ما علی المائدة: دسترخوان پر سب کچھ چٹ کر جانا۔ اللَّہَاسِم واحد لُہْسُم: وادیوں کی تنگ جگہیں۔

لہط: ۱۔ لَہَطَ ـ لَہْطًا ہٗ: کو تھپڑ مارنا۔ — ہٗ بسہم: کو تیر مارنا۔ — الشیءَ: کو جلدی جلدی کھانا (عوام کی زبان میں)۔ — بہ الارضَ: کو زمین پر پٹخ دینا۔ —ت امّہٗ بہ: کو اس کی ماں کا جننا۔ اللَّاہِط (فا): گھر کے دروازے پر پانی چھڑکنے اور اس کو صاف رکھنے والا۔

۲۔ لَہَطَ ـ لَہْطًا الثوبَ: کپڑا سینا۔

۳۔ لَہْطَةٌ من الخبر: افواہ۔

لہع: ۱۔ لَہِعَ ـ لَہَعًا و لَہَاعَةً الرجُلُ: ہر ایک سے بے تکلف ہونا۔ صفت لَہَع و لَہِع و لَہِیع۔ — فی الکلام: چڑ چڑ باتیں کرنا۔ اللُّہَاعَة: غفلت، سستی۔ اللَّہَیْعَہ: غفلت، سستی۔ (کہا جاتا ہے: رجُلٌ فیہ لَہَیْعَةٌ: غفلت اور سستی کرنے والا) خرید وفروخت میں سستی۔

۲۔ اللَّہِیع: کارگزاری میں تیز۔

لہف: ۱۔ لَہِفَ ـ لَہَفًا علی مافات: کھوئی ہوئی چیز پر افسوس کرنا، صفت لَہِف و لَہِیف: لُہِفَ لَہْفًا: مظلوم ہونا، ظلم کیا جانا۔ لَہَّفَ فلانٌ نفسَہٗ او اُمَّہٗ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

و انفساه و أُمّيَاهُ اور والهفتاهُ کہنا (آہ میں کتنا
بدقسمت ہوں، اف میری ماں، افسوس کتنا نقصان ہوا)
کہنا۔ کہا جاتا ہے: لَهِفَ أُمّيهِ: اس نے اپنے ماں
باپ پر غم کیا، وہ اپنے ماں باپ پر رویا، وہ اپنے ماں
باپ پر رنجیدہ ہوا۔ اَلْهِف: حریص ہونا، لالچ کرنا۔
تَلَهَّفَ عليه: پر غمگین ہونا، افسوس کرنا۔ اِلْتَهَفَ
فلانٌ: کسی افتاد پر غم کی وجہ سے جلنا۔۔۔۔ت النارُ:
آگ کا بھڑکنا۔ اللاهِف (فا) م لاهف و لاهِفَة:
مظلوم مضطر، فریادی، افسوس کرنے والا۔ کہا جاتا ہے:
هو لاهِفُ القلب: وہ شکستہ دل ہے۔ اللاهِفة جمع
لاهِفات و لَوَاهِف لاهف کا مؤنث۔ اللَّهف
(مص) يالَهْفَ فلان: فلاں پر کس قدر رنج و افسوس
ہے۔ يالَهْفِي عليك و يالَهْفَتَا و يالَهفًا و
يالَهْفَ ارضي و سمائي عليك و يالهفاهُ: مجھے
تم پر کس قدر رنج ہے، ہائے افسوس، تیرے اوپر افسوس
ہے یہ کس قدر خسارہ کی بات ہے، وغیرہ۔ اللَّهْفَان
مونث لَهْفَى جمع لَهَافَى و لُهُف: غمگین، غمناک،
حزین، غم انگیز، درد ناک، اداس، دلگیر، مغموم،
اندوہگیں، پریشان، بے چین، بے آرام، فکر مند،
تشویش ناک۔ اللَّهْفَة: لهف کا اسم مرۃ۔ کہا جاتا
ہے: يالَهْفَةَ و يالَهْفتاهُ و يالَهْفَاهُ: افسوس یہ کتنا
بڑا نقصان ہے۔ اللَّهُوف م اللَّهُوفة: غمگین،
غمناک، حزین، غم انگیز، دردناک، پریشان، بے چین،
بے آرام، فکر مند، مغموم، دلگیر۔ اللَّهِيف جمع لِهاف
مضطر، غمگین، مغموم۔ رجلٌ لهيف القلب: دل جلا،
دل شکستہ۔ المَلْهُوف: غمگین جو مال کو بیٹا ہو یا اس
کا کوئی قریبی داغ مفارقت دے گیا ہو، مظلوم
فریادی۔ رجلٌ مَلْهُوفُ القلب: دل جلا، دل
شکستہ۔

۲۔اللَّهُوف مونث اللَّهُوفة: لمبا، دراز، موٹا۔

۞ لهف ۔لَهَفًا على: کسی کھوئی چیز کیلئے آہیں بھرنا، پر
پچھتانا، متاسف ہونا، غم کرنا، کا ماتم کرنا، کے لئے
رنجیدہ ہونا، پر دکھ پہنچنا، کے بارے میں پریشان ہونا،
جھلانا، جھنجلانا، کے متعلق سخت پریشان یا فکرمند ہونا۔
تَلَهَّف بمعنى لَهِفَ نیز تَلَهَّفَ على/ل: کا
شائق، شوقین، متمنی یا کے لئے سرگرم ہونا، کے لئے
بیقرار ہونا، بے تاب ہونا۔ لَهَفٌ: رنج، ملال،
دلگیری، آزردگی، کلفت، غم، الم، سوگ، ماتم، افسوس، آہ
وزاری۔ يالَهْفَ يا لهفا: اوہ، کس قدر افسوس کی
بات ہے، بہت بری بات ہے، ہائے، افسوس، صد
افسوس، حیف۔ يالَهفِي عليك: اوہ، میں تمہارے
لئے کس قدر رنجیدہ ہوں۔ لَهْفَة: آہ بھرنا، آہیں بھرنا،
بے چینی، رونا، چلانا، آہ وزاری، نوحہ، فریاد، آہ و فغاں،
غم و افسوس، فکر، تشویش، پریشانی، اضطراب، خوف،
خدشہ، تردد، پچھتاوا، غم، افسوس، رنج، آزردگی، ملال،
الم، سوگ، ماتم، چاہ، اشتیاق، آرزو و تمنا، شوق،
خواہش، بے تابی، بے صبری۔ لَهِيف جمع لِهَاف:
متاسف، غمگین، رنجیدہ، افسردہ، ملول، آزردہ،
پریشان۔ لاهِف: پریشان، غمگین، غم زدہ، افسردہ
دل، تشویش مند، خائف، اندیشناک، پریشان۔
ملهوفٌ على/الى: کیلئے یا کا حریص، کا شائق، متمنی،
شوقین کے لئے سرگرم، کا خواہاں، خواستگار، طالب۔
مُتَلَهِّف: آرزومند، متمنی، مشتاق، پرآرزو، خواہش
مند، آرزومند، تردد خیز، تشویشناک، پریشان کن، بے
چین، متفکر، بے تاب۔

لهق: ا۔لَهَقَ ۔و لَهِقَ ۔لَهْقًا و لَهَقًا الشيءُ: بہت
سفید ہونا۔ تَلَهَّقَ الشيءُ: بہت سفید ہونا۔ اللَّهاق:
سفید بیل، ہر سفید چیز۔ کہا جاتا ہے: اَبْيَضُ لَهَاقٌ:
یعنی بہت سفید۔ اَبْيَضُ لِهاقٌ: بہت سفید۔ بقرةٌ
لَهاقٌ: بہت سفید گائے۔ بیل۔ اللَّهِق و اللَّهَق م
لَهِقة و لَهَقة جمع لَهَقات و لِهَاق: سفید بیل، ہر
سفید چیز۔ کہا جاتا ہے اَبْيَضُ لَهِق و لَهَقٌ: بہت
سفید۔ مُلَهَّقُ اللون: سفید رنگ کا۔

۲۔تَلَهَّقَ الرجلُ: زیادہ باتیں کرنا۔

۞ لَهَقَ: برف جیسا سفید ہونا۔

لهم: ا۔لَهِمَ ۔لَهْمًا و لَهَمًا الشيءَ: کو ایک مرتبہ ہی
نگل جانا، ہڑپ کر جانا۔۔۔ الماءَ: پانی کا گھونٹ لینا۔
اَلْهَمَهُ الشيءَ: کو کچھ نگلوانا۔۔۔ اللّهُ فلانًا خيرًا:
اللہ تعالی کا کسی کو بھلائی کی وحی کرنا، تلقین کرنا، کی توفیق
دینا۔ تَلَهَّمَ و الْتَهَمَ الشيءَ: کو یکبارگی نگل جانا۔
اللُّهَام: لشکر جرار۔ اِسْتَلْهَمَ اللّهَ خيرًا: اللہ تعالی
سے دعا کرنا کہ وہ اسے خیر کی توفیق دے۔ کہا جاتا ہے:
استلهمُ اللّهَ الرشادَ: میں اللہ تعالی سے راستبازی
کے فیضان کی دعا کرتا ہوں۔ رجلٌ لَهِمٌ و لُهَمٌ:
کھاؤ، پیٹو۔ اللُّهْمَةُ من السويق: مٹھی بھر ستو۔
اللِّهَمُّ: بہت خیر والا، بہت بخشش والا، کھاؤ، پیٹو،
سبقت لیجانے والا گھوڑا یا مرد، بڑا سمندر۔ رجلٌ
لِهَمٌّ جمع لِهَمُّون: وزنی رائے کا مالک، سخی، بہت
قابل۔ (یہ عورتوں کی صفت کے طور پر نہیں آتا)۔
رجلٌ لَهُومٌ: کھاؤ، پیٹو۔ اللُّهَيم: بڑی دیگ۔۔۔
و امُّ اللُّهَيم: موت، بخار، مصیبت۔ الالهام
(مص): دل میں ڈالی ہوئی بات، الہام۔ المُلْهَم
و المُلْهَم من الرجال: کھاؤ، پیٹو۔

۲۔اِلْتَهَمَ لَوْنُهُ: رنگ بدل جانا۔

۳۔اللِّهْم جمع لُهُوم: بوڑھا، عمر رسیدہ۔

۴۔لَهْمَسَ ما على المائدة: دسترخوان سے سب کچھ کھا
لینا۔

۵۔اللُّهْمُوم جمع لَهَامِيم: عمدہ گھوڑا یا انسان، لشکر عظیم،
بڑی تعداد، بہت برسنے والا بادل، بہت دودھ دینے
والی اونٹنی۔ لَهَامِيمُ الناس: سخی لوگ، بزرگ یا سردار
لوگ۔ اللِّهْمِيم: سبقت لیجانے والا گھوڑا یا مرد۔

۞ لَهِمَ ۔لَهْمًا و لَهَمًا و تَلَهَّمَ و اِلْتَهَمَ ہ: کو نگل
جانا، ہڑپ کر جانا، کھا جانا، کے بڑے بڑے نوالے
کھانا، جلدی جلدی ہڑپ کر جانا، چڑ چڑ کھانا، (آگ
کا) کسی چیز کو ضائع کرنا، ختم کرنا، تباہ کرنا۔ اَلْهَمَ ہ
ہ: کو کوئی چیز نگلوانا، کو کے دل میں ڈالنا، کو کی تلقین
کرنا، کو کا الہام کرنا۔ اِسْتَلْهَمَ ہ: سے ایسی چیز طلب
کرنا جس کا فیضان یا تاثیر ہو یا مشورہ طلب کرنا۔۔ ہ:
کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔۔۔ ہ ہ: اللہ
تعالی سے کسی چیز کی دعا کرنا، اللہ تعالی کی طرف کیلئے
رجوع کرنا۔ لَهِمٌ و لَهُومٌ: لالچی، حریص، ندیدہ، بلا
کا شائق، کھاؤ، پیٹو، پرخور۔ اِلْهَام جمع اِلْهَامَات:
تخلیقی تحریک، نیک خیال، جس کی تاثیر یا فیضان ہو،
وحی، الہام۔ القاء مُلْهَم: جو کسی کے کہنے پر ہو۔

لهن: لَهَّنَ القومَ وللقومِ: قوم کو ناشتہ کھلانا۔ اَلْهَنَ ہُ: کو
سفر سے واپس آنے پر کوئی تحفہ دینا۔ تَلَهَّنَ الرجلُ:
ناشتہ کرنا۔ اللُّهْنَة جمع لُهَن: ناشتہ، سفر سے واپسی پر
دیا جانے والا مسافر کا تحفہ، سفر سے واپس آنے والے کو
دیا جانے والا تحفہ۔

لهو: الَهَا ۔يَلْهُو لَهْوًا الرجلُ: کھیلنا۔۔۔ بہ: کا
شوقین ہونا۔۔۔ لَهْوًا و لُهُوًّا ات المرأة إلى
حديث الرجل: عورت کا مرد کی باتوں کو پسند کرنا
اور اس سے مانوس ہونا۔۔۔ لُهِيًّا و لِهْيَانًا عن
الشيءِ: سے غافل ہونا، کا ذکر چھوڑنا۔ لَهِيَ يَلْهَى
لَهًا عنه: سے غافل ہونا، کا ذکر چھوڑ نا اور اس سے منہ
پھیرنا۔۔۔ بكذا: سے محبت کرنا۔ کہا جاتا ہے إنّهُ لَكَ
كما يَلْهَى لَكَ: اس سے وہی کچھ کر جیسے وہ تجھ سے
کرتا ہے۔ لَهَّى تَلْهِيَةً ہُ عن كذا: کو سے مشغول کر
دینا، کا خیال ہٹا دینا۔۔ ہ بكذا: کا سے دل خوش کرنا،
کا سے جی بہلانا۔ لاهَى مُلاهَاةً الشيءَ: کے
قریب ہونا۔۔ الغلامُ الفطامَ: بچہ کا دودھ چھڑانے
کے قریب پہنچنا۔۔۔ ہُ: کے قریب ہونا، سے جھگڑا
کرنا۔ اَلْهَى إلهاءً فلانٌ الشيءَ: کو عاجزی سے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چھوڑ دینا ۔۔۔ ہٗ اللعبُ عن كذا: کو کھیل کا کسی چیز سے مشغول رکھنا، یا سے غافل کرنا۔ تَلَهَّى تَلَهِّيًا بكذا: کو بھول جانا، اپنے آپ کو سے موڑ نا پھیرنا۔ بالشيء: سے جی بہلانا، دل بہلانا۔ تَلاهَى تَلاهِيًا بالمَلاهِي: کھیل کود میں مشغول ہونا ۔۔۔ القومُ: آپس میں کھیلنا۔ اِلْتَهَى الرجُلُ بالشيء: سے کھیلنا ۔۔۔ عنه بغيره: دوسری باتوں یا کاموں میں مشغول ہونا۔ اِسْتَلْهَى اِسْتِلْهَاءً صاحبَهُ: ساتھی کا انتظار کرنا، کو ٹھیرانا۔ اللَّهْوُ: کھیل، بہلاوا، مشغلہ، شغل، غافل کرنے کی چیز، اولاد، عورت، طبل۔ اللَّهْوَةُ: لہا کا اسم مرۃ، عورت جس سے دل بہلایا جائے۔ کہا جاتا ہے فلانٌ لَهُوٌّ عن الخير: فلاں شخص بھلائی سے بہت غافل ہے۔ الأُلْهُوَة و الأُلْهِيَّة و التَّلْهِيَة: بہلاوا، شغل، کھیل۔ المَلْهَى: لہو ولعب، کھیل، کھیل کا زمانہ، کھیلنے کی جگہ، کھیل کا میدان۔ کہا جاتا ہے هذا مَلْهَى القوم: یہ قوم کی اقامت گاہ ہے۔ هذا مَلْهَى الأثافي: یہ وہ جگہ ہے جہاں تین پتھروں کا چولھا بنا کر کھانا پکایا جاتا ہے۔ المِلْهَى جمع مَلاهٍ: کھیل کی چیز۔ آلات المَلاهي: موسیقی کے آلات۔

۲۔ اَلْهَى اِلْهَاءً الرَّحَى و في الرَّحَى و اللرَّحَى: چکی میں غلہ ڈالنا ۔۔۔ الرجُلَ: بہت اور بہتر بخشش دینا۔ اِسْتَلْهَى اِسْتِلْهَاءً الشيءَ: کو زیادہ لینا، نگلنا۔ اللَّهَاة جمع لَهَوَات و لَهَيَات و لُهِيّ و لِهِيّ و لَهًا و لِهَاءٌ و لِهَاءٌ: حلق کا کوا۔ اللُّهَاء: مقدار۔ کہا جاتا ہے هُمْ لُهَاءُ مائة: وہ سو کے لگ بھگ ہیں۔ اللُّهْوَة و اللَّهْوَة جمع لُهًى: چکی کا غلہ، عطیہ، تحفہ، افضل عطیہ، مٹھی بھر مال۔ اللَّهَوِيّ: حلق کے کوے کے متعلق۔ الحرفان اللَّهَوِيَّان: ق۔ ک۔ اللُّهْيَة: تحفہ، بہترین تحفہ۔

۳۔ لَهْوَجَ: اس کے مادہ کا ذکر لہج کے مادہ کے بعد آچکا ہے۔

۴۔ لَهْوَقَ لَهْوَقَةً و تَلَهْوَقَ الرجُلُ: بناوٹی سخی، دیندار وغیرہ بننا۔ في العمل و الكلام: کام یا گفتگو اچھی طرح نہ کرنا۔ رجُلٌ لَهْوَقٌ: بناوٹی سخی اور بہادر۔

○ لَهَا ـلَهْوًا و لَهَا ب: سے دل بہلانا، سے خیال بٹانا، سے وقت گزاری کرنا، کھیلنا، دل بہلانا، فضول وقت ضائع کرنا، بیکار باتوں میں وقت کھونا ۔۔۔ بوقته: اپنا وقت ضائع کرنا، فضول باتوں میں وقت گزارنا ۔۔۔: لطف اٹھانا، دل لگی کرنا، اچھا وقت گزارنا ۔۔۔ الى / ب: میں خوش ہونا، سے لطف اندوز ہونا ۔۔۔ ب: سے محظوظ ہونا، لطف اٹھانا، متمتع ہونا، کا مزہ اٹھانا، کو مرغوب بنانا۔

لَهِيَ لُهِيًّا و لِهْيَانًا عن: سے توجہ ہٹانا، کو بھولنے کی کوشش کرنا، کو بھول جانا، فراموش کرنا، کو خیال سے اُتارنا، کو یاد نہ رکھنا، سے لاپروائی کرنا، بے التفاتی کرنا، کو چھوڑ دینا، سے دست بردار ہونا، قطع تعلق کرنا، سے غافل ہوجانا۔ لَهِيَ ـلَهًا ب: کو پسند کرنا، سے محبت کرنا، کا دلدادہ ہونا، سے محبت ہوجانا، کے بارے میں کے پیچھے پاگل ہوجانا ۔۔۔ عن: سے توجہ ہٹالینا، سے غافل ہو جانا، کو بھول جانا، فراموش کر دینا، چھوڑ دینا، سے دست بردار ہوجانا، سے قطع تعلق کر لینا، پر کوئی توجہ نہ دینا، سے لاپروائی کرنا۔ لَهَّى ہ ب: کو سے خوش کرنا، محظوظ کرنا، کا سے دل بہلانا، کو سے خوش کرنا، کو کی تفریح کرانا، میں کی دلچسپی پیدا کرنا ...... ہ عن: کی سے توجہ ہٹانا، کو سے غافل کرنا، کو سے دور رکھنا، کو سے پھیرنا، کا ذہن سے دور لیجانا۔ لاهَى ہ: کے قریب ہونا۔ اَلْهَى بمعنى لَهَّى۔ تَلَهَّى و تَلاهَى: سے اپنا دل بہلانا، سے اپنا وقت گزارنا، میں مسرت حاصل کرنا، میں خوش ہونا ۔۔۔ ب عن: میں سے خیال بٹانا۔ اِلْتَهَى: بمعنى تَلَهَّى و تَلاهَى نیز ۔۔۔ ب: سے کھیلنا، دل بہلانا، شغل کرنا۔ دُوْرُ اللَّهْو و أماكِنُ اللهو: مقامات تفریح، کھیل تماشوں کی جگہیں، دل بہلاوے کے مراکز۔ مَلْهَاة: محظوظ کرنے کی چیز، طربیہ، بزمیہ۔ مَلْهَاة عامية: مقبول ناٹک، عام پسند مزاحیہ۔ مَلْهًى جمع مَلاهٍ: تفریح کی جگہ، دل لگی کی جگہ، دل بہلاوے کا مرکز، کھیل، تفنن، تفریح، تماشہ، سیر تفریح، وہ چیز جس سے خیال بٹ جائے۔ ضريبة الملاهي: داخلہ ٹیکس، دل بہلاوے کا ٹیکس۔ مِلْهًى جمع مَلاهٍ: کھیلنے کی چیز، کھلونہ جمع (ملاهٍ) و آلات الملاهي: آلات موسیقی۔ مُلْهٍ: دل بہلانے والا، خوش کرنے والا، پُر لطف، دلچسپ، فرحت انگیز، مسرور کن، مرغوب خوش آئند، پسندیدہ، خوش گوار، پُر مذاق، پُر لطف، ظریفانہ۔

لو: لَوْ: یہ حرف مندرجہ ذیل طریقوں پر استعمال ہوتا ہے۔ (۱) زمانہ ماضی میں شرط کے معنی کے لئے جیسے لو جاءني لأكرمته (اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کی عزت کرتا)۔ (۲) زمانہ مستقبل میں شرط کے معنی کے لئے۔ جیسے لو تلتقي اصداونا بعد موتنا: کاش ہمارے اصدا موت کے بعد ملیں، اس صورت میں جب شرط مستقبل سے متعلق ہو تو لو (اِن) کے معنی میں ہوتا ہے اور مضارع کو جزم نہیں دیتا۔ (۳) اگر اس کے بعد مضارع آئے تو اس کا معنی ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے لو تقوم أقوم يعني لو قمتَ قمتُ میں۔ (۴) أن کے مقام پر مصدری حرف ہوتا ہے مگر نصب نہیں دیتا۔ اس کا اکثر استعمال وَدَّ يَوَدُّ کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے وَدُّوا لو تاتيهم اور يودُّ أحدهم لو يعمر: جیسے انہوں نے چاہا کہ تو ان کے پاس آئے اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ (۵) تمنّی کے لئے آتا ہے اور اس کا جواب ف کے ساتھ منصوب ہوتا ہے جیسے: لو تأتيني فتحدثني: کاش تو میرے پاس آتا اور مجھ سے باتیں کرتا۔ (۶) عرض کے لئے بھی آتا ہے جیسے الَّا۔ اس کا جواب بھی ف کے ساتھ منصوب ہوتا ہے جیسے لو تنزل عندنا فتصيب خيرا: اگر تو ہمارے پاس آتا تو بہتری پاتا۔ (۷) تقلیل کے لئے جیسے تصدقوا ولو بظلفٍ مُحْرَقٍ: (تم خیرات کرو خواہ جلے ہوئے کھر کی) خیرات کرو خواہ تھوڑی ہو۔

○ لَوْ: اگر (فرضی شرط کے ساتھ) لَوْ أن: اگر (خیالی شرط کے ساتھ) لولا: اگر نہ۔ لولانا: اگر ہمارے لئے نہ ہوتا۔ فِيمَا لَوْ: اس صورت میں کہ۔ وَلَوْ: اگر چہ، گو، باوجود یکہ، جو، یوں تو، خواہ ہی کیوں نہ۔ (تمنائی): کاش، اگر ذرا۔ لو يعلم: کاش وہ جانے، کاش وہ جانتا۔

لوب: ۱۔ لابَ يَلُوبُ لَوْبًا و لُوَابًا و لَوَبَانًا الرجُلُ او البعيرُ: (مرد یا اونٹ کا) پیاسا ہونا، پانی کے گرد اگرد پھرنا، اور اس تک نہ پہنچ پانا۔ اس سے اسم اللَّوْب و اللُّوب و اللُّؤُوب و اللُّوَاب ہے۔ أَلابَ إلابةً الرجُلُ: پیاسے اونٹوں والا ہونا۔ اللائِب جمع لُؤُوب و لُوب (فا): کہا جاتا ہے اِبِلٌ لُوبٌ و نَحْلٌ لُوبٌ و لوائب: پانی سے دور پیاسے اونٹ اور کھجور کے درخت۔ اللُّوَاب (مص): لعاب۔

۲۔ لَوَّبَ تَلْوِيبًا ہٗ: میں خوشبو ملانا یا کو خوشبو ملنا۔ المُلاب: زعفران سے مشابہ خوشبو۔

۳۔ اللابة جمع لابات و لاب: پتھریلی زمین، سنگلاخ زمین، سیاہ رنگ کے اونٹوں کا مجموعہ۔ اللُّوب: دیگ میں پھرنے والا گوشت کا ٹکڑا۔ (ح): شہد کی مکھی۔ اللُّوبة جمع لُوَب: سنگلاخ زمین، علیحدہ رکھے گئے لوگ جن سے مشورہ نہ لیا جاتا ہو۔ اللوباء اللوبياء و اللوبيا (ن): باقلا، لوبیا، پھلی۔ المُلَوَّب (مفع): پیچ دار لوہا۔

۴۔ اللَّوْلَب جمع لَوالِب: پیچ، پیچ دار کیل۔ اللَّوْلَبِيّ: پیچدار، چکردار، مرغولہ دار، پیچ کی شکل کا۔ المُلَوْلَب: سرمہ لگانے کی سلائی۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ لَولَب جمع لَوَالِب: سکرو، screw پیچ مخروطی چکر، چکر دار کمانی، کوئل سپرنگ (coilspring)، کمانی (srping)، دھرا، (مجازا) اصل محرک، مرکزی نقطہ، بنیادی نکتہ۔ دَرَجٌ لَولَبِيّ: چکردار سیڑھی۔

لوت: لَاتَ يَلُوتُ لَوْتًا الرجلُ: بغیر پوچھے بتانا۔۔۔ الخبرَ: خبر چھپانا، روکنا۔۔۔ فلانًا: کا حق کم کرنا۔ اللَات: ایک بت کا نام۔ لَاتَ: لیس کے مشابہ ایک حرف۔ اس کے بعد صرف ایک معمول کا ذکر کیا جاتا ہے اکثر محذوف مرفوع ہوتا ہے جیسے: ولات حينَ مَناص: یہ جملہ دراصل یوں ہے: ولات الحينُ حينَ مَناصٍ: یہ بچ نکلنے یا فرار ہونے کا وقت نہیں۔ اس کا وقت نکل چکا ہے۔

لوث: ا۔لَاثَ يَلُوثُ لَوْثًا العمامةَ على رأسه: سر پر عمامہ لپیٹنا۔۔۔ الضبابُ بالجبل: کہر کا پہاڑ کو ڈھانک لینا۔۔۔ دارَهُ: گھر پر رہنا۔۔۔ بفلان: کے پاس پناہ لینا۔۔به الناسُ: کے گرد جمع ہونا۔۔ فلانٌ: گھومنا۔۔ الشيءَ: کو منہ میں چھپانا، کو پانی میں بھگونا، کو ملانا۔۔۔ ثوبَه بالطين: کے کپڑے کو مٹی میں لتھڑنا۔۔۔ في الامر: میں دیر کرنا۔۔۔ عن الحاجة: حاجت میں سستی کرنا۔ کہا جاتا ہے: لَاثَ لَوْثًا من الكلام: کھل کر بات نہ کرنا، بات کی وضاحت نہ کرنا۔ مالَاثَ فلانٌ أن غَلَبَ فلانًا: وہ غالب آنے سے نہ رکا۔ لَوِثَ يَلْوَثُ لَوَثًا في الامر: میں دیر کرنا، تاخیر کرنا۔ لَوَّثَ تَلْوِيثًا الشيءَ: کو بھگونا۔۔۔ التبنَ بالقتّ: بھوسے کو چارے میں ملانا۔۔ ثيابَهُ بالطين: کپڑوں کو کیچڑ سے لتھیڑنا۔۔ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔۔ الامرَ: کو مشتبہ کرنا۔۔۔ فلانًا عن كذا: کو سے روکنا۔ الَاثَ إلاثةً مالَهُ بفلان: اپنا مال کسی کے سپرد کرنا۔ اَلْوَثَ اِلواثًا الارضُ: زمین کا خشک زمین میں سبز چارہ اگانا۔ تَلَوَّثَ تَلَوُّثًا زيدٌ بعمرو: (زید کا عمرو) کے پاس پناہ لینا اور نفع کی خاطر ساتھ رہنا۔۔۔ ثوبُهُ بالطين: کپڑے کا کیچڑ سے لتھڑنا۔ اِلْتَاثَ اِلْتِيَاثًا بردائِه: چادر میں لپٹنا۔۔ بالدم: خون میں آلودہ ہونا لتھڑنا۔۔۔ عليه الامرُ: پر معاملہ کا پیچیدہ ہونا۔۔۔ البعيرُ: اونٹ کا موٹا اور مضبوط ہونا۔۔۔ في العمل: میں دیر کرنا۔۔۔ في كلامه: بات کو گڈمڈ کرنا۔ اظہار مافی الضمیر نہ کر سکنا۔۔۔ فلانا عن كذا: کو سے روکنا۔ نباتٌ لَائِثٌ: گنجان پودے۔ اللُوثُ: زبان کا نقص، حماقت، جنون کا اثر۔ اللَوث (مص): نامکمل اور کمزور ثبوت۔ اللَوثُ: ڈھیلا ہونا، ڈھیلا پن۔

اللُوَاث: پلپلاپن، خشک۔ اللُوثة: کمزوری، گوشت اور چربی کی زیادتی، دیر۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ ذو لُوثَةٍ: ست اور کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے: به لُوثَةٌ: اس میں اثر جنون ہے۔ اللَوثَة: لاث کا اسم مرہ، حماقت۔ اللُوَاثة: پلپلاپن، ہر چیز میں آلودہ ہونے والا جماعت، گروہ۔ اللَوِيثة: جماعت گروہ۔ کہا جاتا ہے: إن المجلس يجمع لَوِيثةً من الناس: مجلس میں ملے جلے لوگ ہیں۔ اللَيِث: گنجان پودہ۔ نباتٌ لَيِّثٌ: گنجان پودے۔ الأَلْوَث م لَوْثاء جمع لُوث: ڈھیلے جسم والا، ست رفتار، موٹی زبان والا، کمزور عقل والا۔ ديمة لَوْثاء: مسلسل بارش جس سے پودے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں۔ المَلَاث: وہ جگہ جس پر چیز گھومے۔۔۔ و الملِوث جمع المَلاوِث و الملاوِثة و المَلاوِيث: شریف سردار جس کی پناہ لی جائے۔ کہا جاتا ہے: هم مَلَاوِث: وہ اشراف ہیں۔ انه لنعم المَلَاث للضيفان: وہ آنے والوں کے لئے حیرت انگیز پناہ گاہ ہے۔ المُلَيِّث: موٹاپے کی وجہ سے ست۔

۲۔اللائث (ح): شیر۔ اللَوث: طاقت، قوت، شر، زخم (بہت سے)، بدخواہی، کینہ جوئی۔ الالْوَث م لَوْثاء جمع لُوث: قوی، طاقت ور۔

○ لَاثَ ۔ لَوْثًا و لَوَّثَ ہ: پر دھبے ڈالنا، کو داغدار کرنا، پر دھبہ لگانا، کو گندا کرنا، پر داغ لگانا۔ لَوِثَ ۔ لَوَثًا: دیر سے کرنے والا ہونا، ست ہونا، تاخیر کرنا، ہچکچانا، سستی کرنا، ٹھہرنا، قیام کرنا، دیر لگانا، دیر کرنا۔ تَلَوَّثَ ب: سے داغدار ہونا یا ہو جانا، سے دھبے پڑنا یا پڑ جانا، سے گندا ہونا یا ہو جانا، کا داغ لگنا، سے لتھڑنا۔ التَاث: تاخیر کرنے والا ہونا ست رفتار ہونا، دیر کرنے والا اور ست ہونا۔۔ علي: کے لئے تاریک ہونا، مبہم ہونا، غیر واضح ہونا، الجھا ہوا ہونا، پیچیدہ ہونا۔ لَوثة: داغ، دھبہ۔ لُوثَة: کمزوری، ناتوانی، ڈھیلا پن، سستی، الکسی، ضعف، تکان، بے کیفی، تھکاوٹ، بے ہوشی، غشی، غش۔۔ في: کے لئے جذبہ، کمزوری۔ فيه يا به لوثة: وہ تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے۔ وہ سنکی ہے، خبطی ہے۔ مُلتَاث: ذہنی طور پر بوکھلایا ہوا، پریشان، الجھا ہوا۔

لوج: لَاجَ يَلُوجُ لَوجًا الشيءَ: کو منہ میں پھیرنا۔ اللوجستيك (ا ع): فوج کا ایک محکمہ جس کے ذمہ کسی جگہ مناسب وقت اچھی طرح مسلح فوجی پہنچانا ہے (یونانی لفظ)، فوجی نقل و حمل اور قیام و رسد (logistics)۔

○ لوج: (فرانسیسی لفظ) جمع لوجات و اَلْوَاج: (تھیٹر کا) بکس (box) فری میسن جماعت کی جلسہ گاہ (lodge)، جاگیر پر نوکر کا گھر، دربان خانہ (کسی انجمن کی) جلسہ گاہ۔

لوح: ا۔لَاحَ يَلُوحُ لَوحًا الشيءُ: ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔۔ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔۔ النجمُ: ستارے کا نکلنا۔۔ اليه: کی طرف دزدیدہ نگاہ سے دیکھنا۔۔ الشيءَ: کو دیکھنا۔ کہا جاتا ہے: لاحه ببصره لوحةً: اس نے اُسے دیکھا پھر وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔۔ العطشُ او السفرُ فلانًا: پیاس یا سفر کا کسی کے رنگ کو بدل دینا۔ لَوَّحَ تلويحًا: دور سے اشارہ کرنا (خواہ کسی بھی چیز سے کیا جائے)۔۔ بسيفه: تلوار چمکانا۔۔ بثوبه: کپڑا بلند کر کے ہلانا۔ کہا جاتا ہے: لَوَّحَ للكلب برغيف فتبعه: اس نے کتے کو روٹی ہلا کر دکھائی تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔۔ الشيبُ فلانًا: بڑھاپے کا کسی کو سفید بالوں والا کر دینا۔۔ السفرُ او العطشُ فلانًا: سفر یا پیاس کا چہرے کو متغیر کر دینا۔۔۔ فلانًا بالعصا و السيف و السوط والنعل: کوڈنڈا، تلوار، کوڑا، جوتا اٹھا کر مارنا۔۔ الشيءَ بالنار: کو آگ سے گرم کرنا۔۔ العنبُ: انگوروں کا پکنے لگنا (عوام کی زبان میں)۔ اَلَاحَ اِلاحَةً الشيءُ: ظاہر ہونا۔۔ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔۔ النجمُ: ستارے کا روشن ہونا۔۔ بسيفه او ثوبه: تلوار یا کپڑے سے اشارہ کرنا۔ تَلَوَّحَ: ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ اِستَلَاحَ اِستلاحةً في الامر: معاملہ کو غور سے دیکھنا۔ اللائحة جمع لَوائح (اللائح کا مؤنث): خارجی مظہر (کہا جاتا ہے: نظرتُ إلى لوائحه: میں نے اس کی شکل و صورت کی طرف دیکھا) رجسٹر۔ اللَوحُ جمع اَلْواح: تختہ، تختی، ہر چوڑی چیز خواہ لکڑی کی ہو یا ہڈی کی یا لوہے کی۔ لَوحُ الجسد: بدن کی ہر چوڑی ہڈی، ہاتھ و ٹانگ کی ہڈی کے سوا ہڈی، ہڈی۔ کہا جاتا ہے: نظرتُ إلى الواحه: میں نے اس کا ناک نقشہ دیکھا۔ اَلْواحُ السلاح: چمکنے والے ہتھیار، مثلاً تلوار بھالا وغیرہ۔ اللُوح: کرۂ ہوائی۔ اللِياح و اللَياح: صبح، ہر سفید چیز (زور دینے کے لئے کہا جاتا ہے: ابيض لَيَاحٌ او لِيَاحٌ: خالص سفید۔) (ح): جنگلی بیل۔ التلاويح: شروع کے پکے ہوئے انگور (عوام کی زبان میں)۔ التلويحات: کتاب کے حواشی یا نوٹ۔ المُلتاح: دھوپ یا سفر یا کسی اور وجہ سے متغیر رنگ والا۔ المِلواح: لمبا، دراز، پتلا دبلا، اچھی اور

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بڑی ہڈیوں والا، جلد دبلی ہونے والی عورت، باز کا شکار کرنے کے لئے ٹانگ سے باندھا جانے والا الّو۔ قِدحٌ مُلَوَّحٌ: آگ سے متغیر رنگ پیالہ۔

۲۔لَاحَ یَلُوحُ لَوحاً و لُوحًا و لُوَاحاً و لُؤُوحاً و لَوَاحَانًا الرجلُ: پیاسا ہونا۔اِلتاح اِلْتِیَاحًا: پیاسا ہونا۔اللُّوح: پیاس۔ابلٌ لُوَّحَی: پیاسے اونٹ۔ المِلْوَاح و المِلْوَح و المِلیاح جمع مَلاویح: جلد پیاسا ہونے والا۔کہا جاتا ہے:اِبلٌ مَلَاوِیحٌ: جلد پیاسے ہونے والے اونٹ۔

۳۔اَلَاحَ اِلَاحَةً بحقه: کا حق مارنا ـــــ فلانا: کو ہلاک کر دینا۔

۴۔ اَلَاحَ اِلَاحَةً منه: سے خوف کرنا، پرہیز کرنا ـــــ من القول: کہنے سے شرمانا۔

۵۔الاحَ الاحَةً علی الشیء: پر اعتماد کرنا۔

○ لَاحَ ـ لَوحاً: دکھائی دینا، ظاہر ہونا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا، منڈلانا، چھانا، برآمد ہونا، نکلنا، نظر آنا (ـــــ ل: کو دکھائی دینا) (طلوع سحر) شروع ہونا، چمکنا، دمکنا، یکا یک نظر، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا، جھلملانا، ٹمٹمانا، لگنا، معلوم ہونا، مرجھانا، (پیاس سے) منہ سوکھنا یا حلق خشک ہونا یا حلق میں کانٹے پڑنا، جھلسنا ـــــ ہ: (سورج کا کسی کو) سانولا کرنا۔یلوح لی أن: مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے:علی مایلوح: جیسا کہ لگتا ہے، معلوم ہوتا، نظر آتا ہے، ظاہراً، بظاہر۔لَوَّحَ الی/ل ب: کو کیساتھ اشارہ کرنا، کو کوئی چیز ہلا کر اشارہ کرنا۔ ـ:اشارہ کرنا۔ ـ ب: کو اشارہ کرنا، تلمیح کرنا، کنایہ کرنا، کو اشارۃً کہنا، کو کا اشارہ کرنا، کو اشارۃً کہنا بتانا، مطلع کرنا کہ ـــــ ل ب: پر کی چوٹ کرنا، تعریض کرنا ـــــ ب: کو لہرانا، گھمانا، جھلانا، حرکت دینا۔ ـــــ ہ: بڑھاپے کا سر کو سفید کرنا۔ (سورج کا کسی کو) سانولا کرنا ـــــ ہ: (فرش کی) تختہ بندی کرنا، (فرش پر) تختے بچھانا۔لَوَّح بیدیه: ہاتھ ہلا کر اشارہ کرنا۔اَلَاحَ: نمودار ہونا، ظاہر ہونا، دکھائی دینا، نظر آنا، چمکنا، دمکنا، بھڑکنا، شعلہ فشان ہونا، یکا یک نظر آنا۔ ـــــ ہ: کو ہلانا، لہرانا، گھمانا۔ لَوح جمع اَلْوَاح و الاویح: تختہ، بورڈ، تختہ سیاہ، بلیک بورڈ، سلیٹ، تختی، سِل، پلیٹ، شیٹ، (دروازہ وغیرہ کے) ایک خانہ کا شیشہ، لمبا اور کم چوڑا تختہ۔ منقش تختہ، چھوٹا بورڈ، سائن بورڈ، شانہ۔ ـــــ وح ـ: سلیٹ کی سل، سلیٹ۔لَـــوحٌ ـــــ خـــعَـ: شکن دار، سلوٹوں والی لوہے کی چادر corrugeted iron۔لوحُ الجلید: برف کا بلاک۔لوحٌ ـــــ: لوہے کی چادر۔لوحُ زُجاجٍ: شیشے کی چادر، pane۔لوحٌ مُتَحَرِّك: (کھیلوں میں) سپرنگ بورڈ۔لوحٌ مَعْدنی: دھاتی پلیٹ، دھاتی چادر۔لوحُ النافذه: کھڑکی، دریچہ کا شیشہ window pane۔لَوْحَة جمع لَوْحات و اَلْوَاح: بورڈ، تختہ، بلیک بورڈ، تختہ سیاہ، سلیٹ، تختی، سِل، پلیٹ، چادر، (کھڑکی وغیرہ کا) شیشہ، دلا، منقش تختہ، سجاوٹی تختی، زیبائشی تختی، آرائشی لوح، ہموار سطح، سطح، سکرین، اٹھائے ہوئے اشتہار، placard، پوسٹر، تصویر، رنگین تصویر، نقش رنگین (painting)۔لوحة الاسم: دروازہ پر لگی ہوئی تختی، نام کی تختی (door plate, name plate)۔لوحةُ التوزیع: سوچ بورڈ switch board، بٹن تختہ۔لوحة الداما: مہرہ بازی کا بورڈ، شطرنج کی بساط۔لوحةٌ زیتیة: روغنی تصویر oil painting۔لوحةٌ سَوْداء: بلیک بورڈ، اعلامیہ بورڈ bulletin board۔لوحةُ الشطرنج: شطرنج کی بساط۔لوحة الکتابة: سلیٹ، لکھنے کی تختی، بلیک بورڈ۔لَوَّاح: مرجھایا ہوا، پژمردہ، جانکاہ جھلسا ہوا، سوزان، جلانے والا۔تَلْوِیح جمع تلویحات: اشارہ کرنا، لہرانا، گھمانا، اشارہ، آنکھ کا اشارہ، ایماء، رمز کنایہ، تلمیح، حوالہ، آگہی، اطلاع، درپردہ الزام لگانا، مجاز مرسل (موصوف کی جگہ صفت)۔جمع اشارے، حوالے، ریمارکس، حاشیے، شرحیں، حاشیہ پر لکھے ہوئے نوٹ۔لائِحة جمع لائحات و لَوَائِح: پروگرام، لائحہ عمل، نظام العمل، منصوبہ، خاکہ، مسودہ قانون (bill)، تحریک یا قرارداد (motion) حکم، فرمان (ordinance) قاعدہ (regulation)، ضابطہ (rule) جمع لوائح: خارجی مظہر، شکل، صورت، خارجی اشارہ۔لائحة قانونیة یا لائحةُ القانون: مسودہ قانون (bill, draft law)۔لائحةُ السفر: ٹائم ٹیبل، اوقات نامہ، ٹرین شیڈول، ریلوے گائیڈ۔لائحةُ الطعام: طعام نامہ (menu)۔مُلَوِّحَة: اشارہ (ریلوے سگنل)، جھنڈی کے ذریعے اشارہ (semaphore)، مُلْتَاح: دھوپ سے سانولا جھلسا ہوا۔

لوخ: لَاخَ یَلُوخُ لَوخاً هُ: کو ملانا، خلط ملط کرنا۔اِلْتَاخَ اِلْتِیَاخًا الشیءُ: ملنا، خلط ملط ہونا ـــــ العجینُ: آٹے میں خمیر اٹھنا۔اللواخة و اللباخة: دودھ سے ملا ہوا مکھن۔

لود: لَوِدَ یَلْوَدُ لَوَداً: سرکش و باغی ہونا۔الأَلْوَد جمع اَلْوَاد: سرکش جس کا انصاف کی طرف جھکاؤ نہ ہو، موٹی [illegible]

لوذ: ا۔لَاذَ یَلُوذ لَوْذًا و لَوَاذًا و لِوَاذًا و لُوَاذاً و لِیاذاً بالجبل: پہاڑ میں جا چھپنا، قلعہ بند ہونا، پناہ لینا ـــــ بالقومَ: قوم کی پناہ میں آنا ـــــ الطریقُ بالدار: راستے کا گھر تک پہنچنا۔لَاوَذَ لِواذاً و مُلاوَذَةً بفلان: کی پناہ میں آنا ـــــ القومُ: ایک دوسرے کی پناہ لینا ـــــ القومَ: قوم کی مدارات کرنا ـــــ بالقوم: کو گھیرنا۔اَلَاذَ اِلاذَةً بالجبل و بالقوم: بمعنی لَاذَ۔ الطریقُ بالدار: راستے کا گھر کے اردگرد اور اس سے ملا ہوا ہونا ـــــ ت الدارُ بالطریق: گھر کا راستے سے متصل ہونا۔اللَوْذ (مص) جمع اَلْواذ: پہاڑ کا دورہ، گشت، پہاڑ کا پہلو (کہا جاتا ہے: اعتصم بلوذ الجبل و بالواذه: اس نے پہاڑ کے پہلو میں پناہ لی) وادی کا موڑ (کہا جاتا ہے:نزلوا بلوذ الوادی: وہ وادی کے موڑ پر اترے) گوشہ/ علاقہ۔کہا جاتا ہے:فلان یطوف فی الواذ البلاد: فلاں شخص ملک کے گوشوں/ علاقوں میں سفر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے:هو لَوْذُهُ: وہ اس کے قریب ہے۔لواذُ الشیء: چیز کے قریب قریب۔کہا جاتا ہے:لی من الدراهم مائةٌ او لواذُها: میرے پاس سو کے قریب درہم ہیں۔لَوْذَانُ الشیء: کنارہ، جانب۔ التَلْواذ: اسم ہے بمعنی المُلاوَذَة: کہا جاتا ہے:لهم تَلْواذٌ: وہ ایک دوسرے کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ المَلَاذ: قلعہ، جائے پناہ۔الملاوِذ: مِلْوَذ کا مفرد، ازاریں۔المِلْوَذة: قلعہ، جائے پناہ۔

۲۔لَاوَذَ لِوَاذاً و مُلاوَذَةً فُلَاناً: کی مخالفت کرنا ـــــ عنه: سے بچ کر نکل جانا، فریب سے نکل جانا۔اللَوْذَانِیَّة: دھوکا دہی، ریاکاری، فریب، مکر، جھوٹ۔

۳۔اللَاذة جمع لَاذ: سرخ ریشم کا کپڑا۔

○ لَاذَ ـ لَوذًا و لِواذاً و لَوَاذاً و لُواذاً و لِیاذاً ب: کے پاس یا میں پناہ لینا، سے رجوع کرنا، کے پاس جایا کرنا، کے قریب رہنا، پر مذہبی طور پر عمل پیرا ہونا۔ مَلَاذ: پناہ، حمایت، پناہ گاہ، مامن، ملجا، محافظ، نگہباں۔ لائِذ: پناہ یا حفاظت کا متلاشی، پناہ گیر، پناہ گزین۔

○ لُور: قدیم یونانی بربط۔لائر۔ لَوْرد جمع لوردات: لارڈ (lord) (انگریزی)۔لوری: لاری، ٹرک۔

لور: اللُّوْر (ط): کھٹی پنیر جسے قریشہ بھی کہا جاتا ہے۔

لوز: ا۔لَازَ یَلُوزُ لَوْزًا الیه: کے پاس پناہ لینا۔المَلَاز: پناہ گاہ۔کہا جاتا ہے:انه لَعَوزٌ لَوِزٌ: وہ غریب مفلس ہے۔

۲۔لَازَ یَلُوزُ لَوْزًا منه: سے خلاصی پانا، چھٹکارا حاصل کر لینا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۳۔لَازَ یَلُوزُ لَوزًا الشیءَ: کوکھانا۔لَوَّزَ تَلْوِیزًا التمرَ: کھجور میں بادام بھرنا۔اللَّوْزُ (ن): بادام کا درخت۔اللَّوْزَۃ: گلے کی گلٹی/غدود جودو گلٹیاں ہوتی ہیں:اللَّوْزَتَان: کمان کے دوسوراخ جہاں تانت باندھی جاتی ہے۔لَوْزِی: بادامی شکل کا۔اللَّوْزِیْنَج (ط): بادام والا کیک۔اَرْضٌ مَلازَۃ: زمین جہاں بادام کے درخت بکثرت ہوں۔المُلَوَّز: بادام بھری کھجور۔وجہٌ مُلَوَّزٌ: خوبصورت، ملیح چہرہ۔

۞ لَوَّزَ ہ: میں بادام بھرنا۔لوز (اسم جمع) بادام، جوتے پر لگا پیوند۔لَوْزَۃ جمع لوزات: بادام۔التھاب اللوزتین: گلے کے غدودوں کا ورم (tonsitilis)

لوس: لَاسَ یَلُوسُ لَوسًا الشیءَ: کو چکھنا ــــ الحلاواتِ وغیرَھا: مٹھائی کا بہت شوقین ہونا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا صفت لائِس و لَؤُوس و لَوَّاس و اَلْوَس۔ ــــ الشیءَ فی فمہ: کومنہ میں چکر دینا۔کہا جاتا ہے ھو لا یَلُوسُ کذا: وہ اسے اس طرح حاصل نہیں کرتا۔اللُّوس: لائِس کی جمع: کھانا، طعام۔کہا جاتا ہے ماذقتُ لَوَاسًا: میں نے ایک لقمہ یا نوالہ بھی نہیں چکھا۔اللُّوَاسَۃ: لقمہ، نوالا۔کہا جاتا ہے ماذقت لَؤُوسا: میں نے ایک لقمہ بھی نہیں چکھا۔

لوص: الَاصَ یَلُوصُ لَوصًا: دروازہ وغیرہ کی دراز سے دیکھنا ــــ عنہ: سے کنارہ کرنا، اجتناب کرنا، کترانا۔لاوَصَ مُلاوَصَۃً: دروازہ وغیرہ کی دراز سے دیکھنا ــــ الیہ: اس طرح دیکھنا گویا کسی ارادہ سے فریب دے رہا ہے ــــ فلانا عن کذا: کو میں دھوکا دینے یا فریب سے خطرہ میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔...... ــــ الشجرۃَ: درخت کو کاٹنے کے لئے ادھر ادھر سے دیکھنا۔اَلاصَ اِلاصۃً علی الشیءِ: کو کے قابل بنانا۔کہا جاتا ہے ما اَلَصْتُ أن آخذ منہ شیئًا: میں نے اس سے کوئی چیز لینے کا ارادہ نہیں کیا۔تَلَوَّصَ تَلَوُّصًا: پہلو بدلنا، پیچ و تاب کھانا، کروٹ بدلنا، لوٹ پوٹ ہونا۔المُلاوِص: چاپلوس، فریبی۔

۲۔لَوَّصَ تلویصًا: خالص شہد کھانا۔اللَّوَاص: خالص شہد۔

۳۔لِیصَ الرجُلُ: خوف زدہ ہونا۔

۴۔اللُّوص: کان یا گلے کا درد۔

۞ لَاصَ لَوصًا: دروازہ کی درز سے جھانکنا، بغور دیکھنا، راز جوئی کرنا۔لاوَصَ ہ: کے لئے راز جوئی کرنا ھ/الی: کو تکنا، گھورنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کو کسی طرح دیکھنا ــــ ہ: کو دھوکا دینا، فریب دینا، چل دینا، ٹھگ لینا۔مُلاوِص: عیار، مکار، کائیاں، فریبی، چالباز۔

لوط: ۱۔لَاطَ یَلُوطُ لَوطًا الحوضَ: حوض کو مٹی سے لیپنا ــــ الشیءَ بالشیءِ: کو سے جوڑنا۔کہا جاتا ہے:لَاطَ الشیءُ بقلبی: چیز میرے دل کو لگی اور میں نے اس کو پسند کر لیا ــــ فلانًا بفلان: کو سے لاحق کرنا، کی سے نسبت کرنا ــــ فلانًا بعین او سھم: کو نظر لگانا، تیر لگانا ــــ الشیءَ: کو چھپانا۔فی الامر: پراصرار کرنا۔لَوَّطَ تلویطًا بالطیب: کو خوشبو سے لت پت کرنا۔اِلْتَاطَ اِلْتِیاطًا ہُ: غیر کو اپنا بچہ بنانا ــــ حوضًا: کو اپنے لئے مٹی سے لیپنا۔کہا جاتا ہے:اِلْتَاطَ بقلبی: وہ میرے دل میں جم گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔اِسْتَلَاطَ اِسْتِلَاطَۃً ہُ: کو اپنا بیٹا بنانا۔اللَّاطَۃ: شہتیر جو چھت بنانے کے کام آتا ہے۔عوام اسے "لطہ" کہتے ہیں۔اللَّوط (مص): چادر، چپکنے والی چیز۔کہا جاتا ہے انی لاجد لہ فی قلبی لَوطًا: میں اس کی محبت کو اپنے دل میں پیوستہ پاتا ہوں۔الأَلْوَط: اسم تفضیل۔کہا جاتا ہے ھو اَلْوَطُ بقلبی: وہ میرے دل سے زیادہ چمٹنے والا ہے۔المُسْتَلاط: منہ بولا بیٹا۔

۲۔لَاطَ یَلُوطُ لَوطًا الانسانَ: کو مارنا، دھتکارنا۔

۳۔اللَّوط: سُو د، چست وپھرتیلا۔اللِّیاط: سُود۔

۞ لَاطَ ـ لَوطًا ب: سے چپکنا، چمٹنا ــــ ہ: (دیوار وغیرہ) کو مٹی سے لیپنا، پر پلاستر کرنا۔لوط: (بائبل کا ایک نام)۔لُوطِی: لونڈے باز، اغلام باز۔لِوَاط و لِوَاطَۃ: لونڈے بازی، اغلام بازی۔

لوظ: لَاظَ یَلُوظُ لَوظًا ہُ: بمعنی لَاظَہُ۔اِلْتَاظَتِ الحاجۃُ: حاجت کا مشکل ہونا۔

لوع: الَاعَ یَلُوعُ لَوعًا ہُ الحبُّ: کو محبت کا بیمار کر دینا ــــ ت الشمسُ فلانا: سورج کا کسی کو جھلس دینا، رنگ متغیر کر دینا ــــ لَوعًا و لُوُوعًا الرجُلُ: بزدل ہونا، گھبرانا یا حریص و بدخلق ہونا ــــ یَلاعُ و یَلُوعُ لَوعَۃً: غم یا عشق سے دل جلنا، گھبرانا، تنگ دل ہونا، مریض ہونا۔لَوَّعَ تَلْوِیْعًا ہُ الحبُّ: کو محبت کا بیمار کر دینا۔عوام کہتے ہیں لَوَّعَ فُلانًا: اس نے فلاں شخص کو ایذائیں دیں۔اَلاعَ اِلاعَۃً تہ الشمسُ: سورج یا دھوپ کا کسی کا رنگ متغیر کر دینا ــــ الثدیُ: پستان کے سرے کا سیاہ و متغیر ہونا۔اِلْتَاعَ اِلْتِیاعًا قلبُہُ: غم یا عشق سے دل کا جلنا۔اللَّاعُ جمع لاعُون و لَاعَۃٌ و اَلْوَاع: بیمار، گھبرانے والا، بزدل۔کہا جاتا ہے رجُلٌ ھاعٌ لاعٌ: بزدل اور گھبرانے والا مرد، مؤنث صورت میں کہا جاتا ہے:ھی ھاعَۃٌ لاعَۃٌ: وہ بزدل اور گھبرانے والی عورت ہے۔نیز کہا جاتا ہے: رجُلٌ ھائعٌ لائعٌ: بزدل اور گھبرا جانے والا مرد۔اللاعۃ جمع لاعَات: لاع کا مؤنث۔اللَّوْعَۃ: لاع کا اسم مرۃ، غم یا عشق وغیرہ کی جلن، پستان کے سرے کی سیاہی۔کہا جاتا ہے:فی قلبہ لوعۃٌ: اس کے دل میں غم یا عشق کی جلن ہے۔

۲۔اللاعَۃ جمع لاعَات: تیز فہم ہوشیار اور بانکی عورت۔

۞ لاعَ یَلُوعُ لَوعًا: اڑیل یا بے صبر، بے چین، بے تاب یا بے قرار یا مضطرب ہونا یا ہو جانا، بیمار ہو جانا ــــ ہ: کو پر زور طریقے سے پکڑنا، بے بس کر دینا، جذبات سے بے قابو کر دینا، تکلیف پہنچانا، بیمار کر دینا (محبت کا)، (دھوپ کا) کسی کو سانولا کر دینا۔لَوَّعَ: سخت اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، ذہنی کوفت پہنچانا۔اِلْتَاعَ: (محبت اور خواہش سے) جلنا، نڈھال ہونا ــــ علی: کسی کے لئے بہت پریشانی محسوس کرنا۔لَوعَۃٌ: محبت کی لگن، دھن، گرمجوشی، عشقیہ وجد یا بے حد خوشی، مرض عشق، تکلیف، سخت غم، کوفت، سخت اذیت (بالخصوص ذہنی)، پریشانی، درد و کرب، شدید (جسمانی یا روحانی) اذیت، سوہان روح۔اِلْتِیَاع: جلنا، وجد طاری ہونا، پریشانی، کوفت، سخت اذیت (بالخصوص ذہنی) تکلیف، مصیبت۔مُلاوِع: فریبی، چالباز، عیار، چالاک، حرآف، مکار، کائیاں۔لوغاریتمان: ضرب تقسیم کے سوال جمع تفریق کے طور پر حل کرنے کے طریق کا سلسلہ، آسان شمار کا سلسلہ (logarithms)

لوف: الَافَ یَلُوفُ لَوفًا الطعامَ: کھانا کھانا یا چبانا ــــ ت الدابۃُ الکلأَ: مویشی کا خشک گھاس کھانا۔اللُّوف (ن): ایک قسم کا پودا۔اللَّوف (مص) من الکلاء و الطعام: ناپسندیدہ کھانا یا چارہ۔اللِّیف: خشک گھاس (اصل میں لَیِّـوف ہے) کہا جاتا ہے: کلأٌ مَلُوف: گھاس جسے بارش نے دھو دیا ہو۔

۲۔اللُّوف: واحدہ لُوفَۃ (ن): ایک قسم کا پودا۔اللُّوفی (ن): ایک پودا جو پرانی پیچش میں آزمودہ ہے۔اللُّوفَۃ: پلپلیتھن، خشک۔اللَّوَّاف: دریاں بنانے والا۔

لوق: الَاقَ یَلُوقُ لَوقًا ہُ: کو نرم کرنا۔الدواۃَ: دوات کی روشنائی کو ٹھیک کرنا۔کہا جاتا ہے ھو لا یَلُوقُ عندکَ: وہ تیرے پاس نہیں ٹھہرے گا۔لَوَّقَ تَلْوِیقًا الطعامَ: کھانے میں گھن ڈالنا۔اللُّوق: کھانے وغیرہ کی ہر نرم چیز۔کہا جاتا ہے ماذاقَ لَوَاقًا: اس نے کچھ نہیں چکھا۔اللُّوقَۃ: لَاقَ کا اسم مرۃ۔المُلَوَّقَۃ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

و الأَلُوقَة: مکھن۔المِلوَق: دوا فروش کا چمچہ۔
۲۔لَاقَ يَلُوقُ لَوقًا عينَهٗ: کی آنکھ پر مارنا۔
۳۔لَوَّقَهٗ فَالتَوَقَ: اس نے اسے ٹیڑھا کیا تو وہ ٹیڑھا ہو گیا (عوام کی زبان میں)۔الَّلوَق: حماقت۔الأَلوَق: احمق.....عند العامة: ٹیڑھا۔
۴۔اللُّوقَة: گھڑی۔کہا جاتا ہے ذَهَبَ فلانٌ لُوقَةً: وہ گھڑی بھر گیا۔
○ مِلوَق جمع مَلَاوِق: ملانے کی چھری، چوڑے پھل کا چاقو یا چمچہ، مرہم پھیلانے کا چاقو، زبان دبا کر حلق دیکھنے کا دستہ (spatula)۔
لوك: لَاكَ يَلُوكُ لَوكًا اللقمةَ: نوالہ کو ہلکے سے چبانا اور منہ میں پھیرنا۔ الفرسُ اللجامَ: گھوڑے کا لگام چبانا اور کاٹنا۔ کہا جاتا ہے هو يَلُوكُ اعراضَ الناسِ: وہ لوگوں کی عزتوں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے أَلِكْنِي إلى فلان: اس کو میرے بارے میں بتاؤ اور میرا پیغام اس کے پاس لیجاؤ۔ (اصل میں أَلئِكْنِي ہے۔دیکھو لأك)۔اللَّوَاك: چبایا جانے والا نوالہ لقمہ۔ کہا جاتا ہے مَا ذَاقَ لَوَاكًا: اس نے لقمہ بھی نہیں چکھا۔
لَاكَ لَوكًا ه: کو چبانا، کے متعلق متواتر باتیں کرنا ـــــ سُمْعَتَهٗ: کی شہرت خراب کرنا، کو بدنام کرنا۔لَاكَ الكلامَ: بات کرتے ہوئے رکنا، ہکلانا، اظہار مافی الضمیر مکمل طور پر نہ کرنا۔السؤالُ الذي تلوكُهُ الالسنة: وہ سوال جو ہر شخص کے لب پر ہے۔مَا تَلُوكُهُ الالسنُ: وہ بات جو لوگ کرتے ہیں، عام افواہ ہے۔ لوكانده اولوكَنْدَه جمع لوكندات: سرائے، ہوٹل۔
لول: اللَّولَاء: سختی، تکلیف۔ کہا جاتا ہے وَقَعَ في اللولاء: وہ سختی اور تکلیف میں پڑ گیا۔
۲۔لولا: یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا جملہ اسمیہ اور دوسرا فعلیہ ہوتا ہے اور اول کے وجود سے دوسرے کے انتفاء پر دلالت کرتا ہے: اگر نہ۔ جیسے لولا زيدٌ لاكرمتك: اگر زید موجود نہ ہوتا تو میں تیری عزت کرتا۔ اس کے بعد شروع میں آنے کی وجہ سے اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد ضمیر ہو تو وہ مرفوع ہونی چاہئے۔ جیسے لولا انتم لكنا مؤمنين: (اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے) لولاي، لولاك اور لولاه: بہت کم مسموع ہے۔ تحضیض اور عرض کیلئے آئے تو مضارع سے مخصوص ہوتا ہے یا جو لفظ اس کی تاویل میں آئے اس سے۔ جیسے لولا تستغفرون الله (تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے (بمعنی تحضیض)
اور لولا اخرتني إلى اجل قريب: (تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی) یہ بمعنی عرض ہے۔ توبیخ و تندیم کے لئے آئے تو ماضی سے مخصوص ہوتا ہے۔ جیسے لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء: (وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے)۔ لولا کی اصل لو اور لا کا مرکب ہے۔ اس کا جواب ضروری ہے۔ اس کے جواب میں اکثر لام آتا ہے۔ مگر لَمْ سے منفی ہو تو لام نہیں آئے گا۔
۳۔اللولب: دیکھئے لوب
۴۔لَولَى لَولَاءَةً: واپس مڑنا۔ کہا جاتا ہے لَولَى مُدْبِرًا: وہ واپس مڑ گیا۔
لوم: لَامَ يَلُومُ لَومًا و مَلَامًا و مَلَامَةً في كذا و على كذا: کو کسی بات میں یا کسی بات پر ملامت کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا۔ فاعلی صفت لائم مفعولی صفت مَلِيم و مَلُوم۔ لَوَّمَ تَلوِيمًا ه: کو ملامت کرنا، تشدید مبالغہ کیلئے ہے۔لَاوَمَ مُلَاوَمَةً و لِوَامًا ه: ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔أَلَامَ إِلَامَةً ه: کو ملامت کرنا۔ صفت فاعلی مُلِيم صفت مفعولی مُلَام اور اسم المَلَامَة جمع مَلَاوِم: ملامت ـــــ الرجلُ: قابل ملامت کام کرنا۔ تَلَوَّمَ تَلَوُّمًا: اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ تَلَاوَمُوا: ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ إلتَامَ التِيَامًا: ملامت قبول کرنا۔ إستَلَامَ استلامةً: ملامت کا مستحق ہونا۔.....اليهم: ایسا کام کرنا جس پر لوگ اسے ملامت کریں۔ اللائم ج لُوَّم و لُوَّام و لُيَّم فا: ملامت کرنے والا۔ اللائِمَة جمع لَوائم: لائم کا مؤنث: ملامت کرنے والی، ملامت۔ کہا جاتا ہے استحق اللائمة: وہ ملامت کا مستحق ہوا جاء بلامة: اس نے قابل ملامت کام کیا۔ اللَّوم (مص): ملامت۔ الملوَم: بہت ملامت۔ الملومى و اللَّومَاء: ملامت۔ اللَّومَة: لام کا اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے جاء بلومة: اس نے قابل ملامت کام کیا۔ الملومة: ملامت کیا ہوا۔ جسے لوگ ملامت کریں، امکان، توقع، تاخیر۔ کہا جاتا ہے لي فيه لومة: مجھے سے توقع ہے۔ اللُّوَمَة: بہت ملامت کرنے والا۔ اللَّوَّام: بہت ملامت کرنے والا۔ اللَّوَّامَة: بہت ملامت کرنے والا۔ النفس اللَّوَّامَة: غلط کاری پر ملامت کرنے والا نفس۔ کہا جاتا ہے انت الوم من فلان: تو فلاں سے زیادہ اس بات کا حق دار ہے کہ تجھے ملامت کی جائے۔ المُتَلَوِّم (فا): برے [illegible] کی وجہ سے قابل [illegible]
۲۔لِيْمَ به: کاٹا جانا۔ إستلامَ إستلامةً إلى ضيفه: مہمان سے اچھا سلوک نہ کرنا۔
۳۔لَوَّمَ تَلوِيمًا لَامًا: حرف لام لکھنا۔ اللام جمع لامات: حرف تہجی جس کا ذکر شروع میں کیا جا چکا ہے۔ اللَامِيّ: لام سے منسوب۔ لَامِيَّةُ العجم: طغرائی کا قصیدہ لامیہ۔ لَامِيَّةُ العرب: شنفری کا قصیدہ لامیہ۔
۴۔تَلَوَّمَ تَلَوُّمًا: بیماری کی جگہ (معلوم کرنے کے لئے اس) کا کھوج لگانا.....في الامر: میں دیر کرنا۔ المُتَلَوَّم: حاجت پوری کرنے کا منتظر۔
۵۔اللام جمع لامات: خوف، وجود، نزدیکی، سخت چیز۔ اللَّامَة: خوف۔اللَّاميون (ن): ایک قسم کا پودا جس کے پتے موٹے اور پھول سفید اور گلابی رنگ کے ہوتے ہیں۔ متروکہ مقامات پر بکثرت پایا جاتا ہے۔ پھولوں کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کی اہم قسم اللاميون الابيض ہے۔اللامي (ز): درخت کی سفید رنگ کی گوند جو چبائی جاتی ہے۔ اللَّوَم: خوف۔ اللُّوَم: ہمزہ والے اللُّؤم کا مُخَفَّف۔
○ لُومَان: اصلاحی قیدخانہ، قید با مشقت (penal servitude) لُومَانجي: مجرم، اصلاحی قیدخانہ میں داخل یا مقیم (immate of a penitentiary)
لون: لَوَّنَ تَلوِينًا الشيءَ: کو رنگین کرنا۔ البسرُ: کھجور میں پکنے کا اثر ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے: لَوَّنَ الشيبُ فيه: بڑھاپے کا بالوں میں ظاہر ہونا۔ تَلَوَّنَ الشيءُ: رنگدار ہونا، مختلف رنگ کا ہونا۔ الرجلُ: متلون مزاج ہونا۔ إلوَنَّ الونانًا: بمعنی تلوّن۔ اللَّون جمع أَلوَان: وہ چیز جو ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دے، رنگ، قسم۔ کہا جاتا ہے عنده لونٌ من الثياب: اس کے پاس کپڑے کی ایک قسم ہے۔ تَنَاوَلَ كذا و كذا لونا من الطعام: اس نے ایسی ایسی قسم کا کھانا کھایا۔ اَتَى بالوان من الحديث: اس نے کئی قسم کی باتیں کیں۔ المُتَلَوِّين: طرح طرح کے کھانے پیش کرنا، اسلوب کلام کا بدلنا۔ المُتَلَوِّن (فا): متلوّن مزاج والا۔
○ لَوَّنَ ه: کو بوقلمون بنانا، میں مختلف رنگوں کے ٹکڑے لگانا، تصویر نگاری کرنا، کو رنگدار بنانا، رنگین بنانا، کو رنگنا، پر رنگ کرنا، کو ہلکا سا رنگ دینا، میں ہلکی سی جھلک پیدا کرنا، پر روغن کرنا، پر استرکاری کرنا (چہرے وغیرہ کا) بناؤ سنگار کرنا، (پر) سرخی لگانا تَلَوَّنَ: رنگدار یا رنگین ہونا، ہلکا سا رنگ دار ہونا، رنگ فق ہونا، ایک رنگ آنا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ایک رنگ جانا، رنگ بدل جانا یا خراب ہوجانا، بوقلموں ہونا، متلون ہونا، ناپائدار ہونا..... لـون: رنگ رنگ آمیزی، کسی (رنگ کا) ہلکا سا روپ، ہلکا سا رنگ، جھلک، شائبہ، رنگ کی کمی بیشی (shade)، قسم، صنف، جنس، نمونہ، مثال، وضع ڈھنگ، صورت، خاص قسم کا کھانا (dish) روش۔ جمع الوان: کی تمام اقسام (جب مضاف ہو) جیسے: الوانُ الاطعمة: ہرطرح کے کھانے۔ مختلفُ الالوان: بوقلموں، متعدد رنگوں کا، گوناگوں، مختلف رنگوں کا، طرح طرح کا، کئی۔ جَلّی الوانَهُ: کے مختلف پہلو واضح کرنا، کونمایاں کرنا۔ لَونی: رنگدار، رنگین، رنگ کا، رنگ سے متعلق، رنگوں سے متعلق۔ تـلـويـن: رنگ دینا، رنگ کرنا دیکھئے لَوَّنَ۔ مُـلَـوَّن: رنگدار، رنگین، کئی رنگ کا، بوقلمون، منظر بدل آلے سے متعلق (kaleidoscopic)۔ مُتَلَوِّن: رنگ دار، رنگین، کئی رنگا، متعدد رنگوں کا، ہلکے رنگ والا، بوقلموں رنگینی والا، ضوبار، جھل مل کرنے والا، غیر مستقل، متلون مزاج، گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ، غیر وضع دار، بے اصول، متزلزل، موجی، ترنگی، وہمی، خبطی، لہری۔

لوه: لاهَ يَـلـوهُ لَـوهًـا و لَوَهَـانًـا و تَلَوَّهَ السرابُ: سراب کا چمکنا، جھلک دکھانا۔ لوهُ السراب و لَوهَتُه لُؤُوهَتُه: سراب کی چمک۔ اللاهَة (ح): سانپ۔

○ لَـونْجی و لاونْـجی: خدمت گزار، غسل کے لئے خدمت گزار۔ لـونْجيَة: گھر کی منتظمہ، خدمت گزار عورت، نوکرانی۔ لَـوَنْدا: لیونڈر lavender ماءُ اللَوَنْدا: عطر لیونڈر، (لیونڈر ایک قسم کی خوشبو)۔

لوى: لَـوَى يَـلْـوِى لَيًّـا و لِيًّـا و لَيَّانًا و لِيَّانًا هُ دَيْنَهُ و بِـدَيْنِـهِ: (ع اور لام کلمہ و کے ساتھ): سے قرض میں ٹال مٹول کرنا۔ ــــ فـلانـاً بحقه: کے حق سے انکار کرنا۔ لَـوِىَ يَـلْـوَى لَوًى النبتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ ــ القِدْحُ او الرملُ: تیر یا ریت کا ٹیڑھا ہونا۔ ـــ ت المعدةُ او الظهرُ: معدہ کا درد والا ہونا، کمر کا جھکنا، صفت مذکر: لَوٍ صفت مؤنث: لَـوِيَة۔ ــــ ت الـلـحيَّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ لاوى مُـلاواةً و لِواءً ت الـحيَّةُ الـحيَّةَ: سانپ کا سانپ پر لپٹنا۔ اَلْوَى اِلْـوَاءً بحق فلان: کے حق کا انکار کرنا۔ ــــ بكلامه: کلام میں تبدیلی کرنا ــــ بيده او بثوبه: ہاتھ یا کپڑے سے اشارہ کرنا۔ ـبه: کو لیجانا۔ ــ بما فى الاناء: برتن کی چیز کو اپنے لئے خاص کرنا۔ ــ بهم الدهرُ: زمانہ کا لوگوں کو ہلاک کرنا۔ ــ البقلُ: سبزی کا مرجھانا۔ الـنبتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ ــ القومُ: لوگوں کا قطعہ ریت کے موڑ پر پہنچنا۔ ــــ الرجلُ: خشک کھیتی والا ہونا، دوسرے کے لئے چھپا کر رکھا ہوا کھانا کھالینا، امیر لشکر کا جھنڈا اینٹھنا۔ ــــ الاميـرُ لَهُ لِواءً: امیر لشکر کا کسی کے لئے جھنڈا نصب کرنا۔ ــــ فلانٌ اللواءَ: جھنڈا اونچا کرنا اور نصب کرنا۔ تَلَوَّى تَـلَوِّيًا الشيءُ: مڑنا۔ ــ البرقُ فى السحاب: بجلی کا بادل میں چمکنا۔ ــــ تلاوَيا: ایک دوسرے پر لپٹنا (جیسے سانپ وغیرہ کا دوسرے پر لپٹنا)۔ تلاوَوْا تلاوِيًـا عـلـى فـلان: کے پاس جمع ہونا۔ اِلْـتَـوَى اِلْتِواءً القِدحُ او الرملُ: تیر یا ریت کا ٹیڑھا ہونا۔ ۔ الشيءُ: مڑنا۔ لَوِيَّةً: دوسرے کے لئے کھانا چھپا کر رکھنا ــــ عليه الامرُ: پردشوار ہونا۔ اِسْتَلْوَى بهـم الـدهـرُ: زمانہ کا لوگوں کو ہلاک و ویران کرنا۔ اللاوى جمع لاوون و لُـوَاة فـا۔ اللاوِيـاء (ن): ایک پودا۔ اللِـواء جمع الْـوِيَة و الْـوِيَـات: جھنڈا (رایۃ سے چھوٹا) (اع): میجر جنرل۔ ــ (فى التقسيم الادارى): ضلع، صوبہ، بریگیڈیر جنرل۔ کہا جاتا ہے: بعثوا بالسواء و اللِواء: انہوں نے مدد طلب کی۔ اللَوَاء (ح): ایک قسم کا پرندہ۔ اللَوَّة: بدشکلی۔ اللُوَى: باطل باتیں۔ اللَوَى (مص): کمر کی خمیدگی، معدے کا درد۔ الـلـوَى جمع الْـواء و الْـوِيَة: ریت کا موڑ یا ریت کا تنگ حصہ۔ الـلَـوِىّ: خشک یا مرجھائی ہوئی سبزی یا گھاس، خشک یا تر کے درمیان حالت کی گھاس۔ اللَوِيّ (ن): ایک درخت کہا جاتا ہے کہ رسیوں کی طرح اگتا ہے اور درختوں سے لپٹ جاتا ہے۔ اللَوِيَّة جمع لَـوَايَا: دوسرے کے لئے چھپایا ہوا کھانا۔ اللِيَّة: قرابتیں۔ الأَلْوَى: ٹیڑھا سینگ پیدائشی مڑی ہوئی دم، جمع لُـيّ۔ ــــ من الطريق: غیر معروف دور کا راستہ۔ کہا جاتا ہے: رَمَاهُ الـلـهُ بـالـحـوى الْوَى: اللہ تعالیٰ اُسے بڑے سے بڑے مصائب میں مبتلا کرے۔ ــــ م لَيَّاء: سخت جھگڑالو، جنگجو، تکلیف دہ، اکیلا، عزلت نشیں۔ اللَيَّاء: الألوَى کا مونث: زمین جو پانی سے دور ہو۔ الألْوَاء: وادی کے پہلو، ملک کے علاقے، اطراف۔

۲۔ اَلْوَى اِلْوَاءً فلانٌ: بہت تمنا کرنا۔

۳۔ اللاوون و اللاؤُو: الذين کی جمع۔ اللات: ایک بت کا نام۔ اللاوِيـــاء: داغنے کا لوہا۔ اللاوِيّ جمع لاوِيُـون: لاوی بن یعقوب بن اسحٰق بن ابراہیم علیہم السلام کی طرف منسوب۔ سِفرُ اللاوِيين: موسیٰ علیہ السلام کی پانچ کتابوں میں سے ایک کتاب۔ اللَوّة و اللِيَّة: دھونی دینے کی عود۔ اللَوَى: بمعنى اللاتى جو التی کی جمع ہے۔ اللَوِيّ: لَو سے منسوب۔

○ لوى ـ لَيًّا لُوِيًّا هُ: کو موڑنا، جھکانا، خم کرنا، بل دینا، مروڑنا، توڑنا، مروڑنا، لپیٹنا، کا حلیہ بگاڑنا، کو مسخ کرنا، کی غلط تاویل کرنا، (سر) موڑنا، (منہ) پھیرنا۔ ــــ عـلـى: کی طرف رخ کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کا سامنا کرنا، کو یاد کرنا، کے متعلق فکرمند ہونا، کی طرف توجہ کرنا۔ لَـوَى فِيـه اللسـانَ: کی غیبت کرنا، کی برائی کرنا۔ لايـلـوى على شيء: کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، از حد غیر محتاط ہونا۔ لَيًّا و لَيَّانًا ه عن: کو سے چھپانا، کو سے صیغہ راز میں رکھنا۔ لَـوِىَ ـلَـوًى: ٹیڑھا ہونا، جھکا ہوا ہونا، خمیدہ ہونا، لوٹ پوٹ ہونا، بل کھانا، چکر کھانا، بیل کا چڑھنا، کنڈلی مارنا، (سانپ وغیرہ کا)۔ لَوَّى ه: کو موڑنا، جھکانا، خم کرنا، بل دینا، مروڑنا، توڑنا، مروڑنا، پیچیدہ کرنا، الجھانا، میں الجھاؤ پیدا کرنا۔ اَلْوَى ه/ب: کو موڑنا، بل دینا، جھکانا۔ ــــ ه عن: کو سے ہٹانا، پھیرنا، موڑنا ــــ بيده: ہاتھ ہلا کر اشارہ کرنا۔ ــ ه: (جھنڈ) اونچا کرنا، اٹھانا۔ ــ ب: کو لیجانا ہٹانا، دور کرنا۔ اَلْوَى عنان الشيء عن: کو سے ہٹانا، پھیرنا، موڑنا، سے روکنا، باز رکھنا۔ ــــ: قابو میں رکھنا۔ تَـلَـوَّى: بٹا ہوا ہونا، بل دیا ہوا ہونا، مروڑا ہوا ہونا، چکردار ہونا، پیچ در پیچ ہونا، پیچیدہ ہونا، پیچدار ہونا، جھکا ہوا ہونا، ٹیڑھا ہونا، موڑ والا ہونا، مڑنا، بل کھانا، بل کھاتے ہوئے جانا، کنڈل مارنا، بل کھاتے ہوئے چلنا، لوٹ پوٹ ہونا، پیچ و تاب کھانا، ہوشمندی اور چالاکی کا مظاہرہ کرنا۔ اِلْتَـوَى: جھکا ہوا ہونا، مڑا ہوا ہونا، بل دیا ہوا ہونا، بٹا ہوا ہونا، بل دیا ہوا ہونا، مروڑا ہوا ہونا، بل کھاتے ہوئے جانا، میں پیچ و خم ہونا، لپٹنا، چھپا ہوا ہونا، مروڑا جانا، بل دیا جانا، اینٹھنا، بد شکل ہونا، ہٹ جانا، نکل جانا ــ عن: کو چھوڑ دینا ــ على: کے لئے مشکل یا ہو جانا، الجھا ہوا ہونا یا ہو جانا، پیچیدہ ہونا یا ہو جانا لَـيُّ الشيشة: حقہ کی لچکدار نلکی۔ لايـعـرف الـحيَّ من اللَيّ: اسے سانپ اور پانی دینے والی باغ کی نرم نالی میں تمیز نہیں، اسے بارش سے نکل کر اندر آنے کا بھی ہوش نہیں۔ لَوِيٌّ جمع اَلْواء: (پیٹ کا) مروڑ، قولنج، درد شکم، تکلیف درد، سختی۔ قاسی الالواء و اللأواء: ہزاروں موتیں مرنا۔ لِويٌّ جمع اَلْواء و اَلْوِيَة: خمیدگی، لِواء جمع اَلْوِيَة و اَلْوِيات: جھنڈا، علم، پرچم، بریگیڈ (فوج کا) (brigade)، میجر جنرل، ریئر ایڈمرل rear admiral، صوبہ، ضلع (عراق میں ملک کے ۱۴ الواء ہیں)۔ امیـرُ اللـواء: بریگیڈیر جنرل۔ لـواء جوى: ہوائی فوج کا بریگیڈ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عَقَدَ لواءَ شیء: کسی چیز کی بنیاد رکھنا، کسی چیز کو شروع کرنا، کسی چیز کو وجود میں لانا، کسی چیز کی تخلیق کرنا، کو بنانا، کا باعث ہونا، کو ابھارنا، کا باعث بننا۔ البارجة المعقود لواء ها للامیرال: امیرالبحر کا (پرچمی) جہاز۔ عُقِدَلَه لواءُ المجد ز النصر) اسے شہرت (فتح) کا لارل انعام میں دیا گیا۔ غیرُ لاوٍ علی: وہ سے لاپرواہ ہے۔ مُلْتَوًى جمع مُلْتَوِیَات: (سڑک کا) موڑ، پیچ بل، گولائی، خم۔

لوی: لَوَی (ع کلمہ و اور کلمہ لام ی سے) یَلْوِی لَیًّا و لَوِیًّا و لُوِیًّا الحبلَ: رسی بٹنا، موڑنا ـــ الغلامُ: لڑکے کا بیس سال کا ہونا ـــ عن الامر: میں سستی کرنا۔ کہا جاتا ہے لَوَتِ اللیالی کفَّهُ علی العصا: راتوں نے اسے بوڑھا کر دیا ـــ لَیًّا و لَیَّانًا امرَهُ عنی اس نے اپنی بات مجھ سے پوشیدہ رکھی ـــ سِرَّهُ: راز چھپانا، بھید کو صیغہء راز میں رکھنا ـــ الحزنُ قلبَهُ: غم کا دل کو پھیر دینا ـــ علیه: کی طرف جھکنا اور اس کا انتظار کرنا۔ کہا جاتا ہے مرّ لایلوی علی احد: وہ بغیر رکے اور انتظار کئے گزر گیا ـــ رأسَهُ او برأسه: سر کو پھیر لینا، اعراض کرنا ـــ ت الناقةُ بِذَنَبِها: اونٹنی کا اپنی دم کو ہلانا ـــ فلانا علی فلان: ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا۔ کہا جاتا ہے فلانٌ لا یلوی ظهرَہ: کسی کی سختی کا اظہار کرنا ہو تو کہتے وہ اپنی پیٹھ نہیں موڑتا۔ لَوَّی تَلْوِیَةً علیه الامرَ: پر کام مشکل کر دینا۔ کہا جاتا ہے لَوَّی اعناق الرجال: وہ غالب آ گیا۔ اَلْوَی إلْوَاءً برأسِه: سر کو جھکانا ـــ ت الناقة بذنبها: اونٹنی کا اپنی دم کو ہلانا۔ تَلَوَّی تَلَوِّیًا الحبلُ: رسی کا بٹنا ـــ ت الحیّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ اِلْتَوَی اِلْتِوَاءً الحبلُ: رسی کا بٹنا ـــ الامرُ: مشکل ہونا ـــ عن الامر: میں سستی کرنا۔ اللَّیَّة جمع لَوًی: لَوَی کا اسم مرہ۔ مُلْتَوَی الوادی: وادی کا موڑ۔ المَلاوِی: پیچ دار راستے۔ کہا جاتا ہے یسلکو الملاوی: وہ پیچ دار راستوں پر چلے۔

لیا: الیَا إلْیاءً ت الناقةَ: اونٹنی کا آہستہ چلنا۔

○ لِیَّاء: شارک مچھلی جس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔

لیت: ۱۔ لاتَ یلیتُ لیتاً هُ عن کذا: کو سے ہٹانا، روکنا ـــ زیداً حقَّهُ: زید کے حق کو کم کرنا۔ اَلاتَ إلاتَةً ہ عن کذا: کو سے ہٹانا، روکنا۔ کہا جاتا ہے ما الاتَهُ من عمله شیئاً: اس نے اس کے کام میں سے کچھ کم نہیں کیا۔

۲۔ لات: دیکھیں لات۔ اللِیت جمع لِیَات: گردن کا پہلو۔ تثنیہ لیتان ہے۔ لَیْتَ: عموماً ناممکن کی تمنا کا حرف ہے۔ جیسے لیت الشباب یعود: کاش جوانی لوٹ آئے، کسی قدر ممکن الحصول تمنا کے لئے بھی آتا ہے: جیسے لیتَ العلیلَ صحیح: کاش بیمار تندرست ہو جائے، یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ ماحرفیة سے مل کر اسماء کے ساتھ خاص ہونے سے بند نہیں ہوتا اس لئے لَیْتَما قام زید نہیں کہا جاتا۔ یائے متکلم سے متصل ہو تو کہا جاتا ہے لیتنی و لیتی لیکن موخرالذکر نادر ہے۔

○ لَیْتَ و یالَیْتَ: کاش۔ لیتنی مِتُّ لأجلك: کاش میں تمہارے لئے مر جاتا۔ لیته کان هنا: کاش وہ یہاں ہو۔ یا لیتَ کان یذهب: کاش وہ چلا جاتا۔ لیتَ شِعری: کاش میں جانتا۔ لِیتُرجِیَه جمع لترجیات: عیسائیوں کی دعاؤں کی کتاب، عیسائیوں کی نماز (کی ترکیب) (liturgy)۔ لیتوانیا: لیتھوانیا (ملک کا نام)۔ لیتوانی: لیتھوانیا کا باشندہ Lithuanian

لیث: ۱۔ لَیَّثَ تَلْیِیثًا و لُیِّثَ و تَلَیَّثَ تَلَیُّثًا الرجلُ: شیر کی مانند ہونا۔ لایَثَ مُلایَثَةً ہُ: سے شیر جیسا معاملہ کرنا، میں شیر کی صفت پر فخر کرنا۔ اِسْتَلْیَثَ: شیر کی مانند ہونا۔ اللائِث (ح): شیر۔ اللَیْث جمع لُیُوث و مَلْیَثَة (ح): شیر، طاقت اور شدت۔ اللَیْثَة جمع لَیْثات (ح): شیرنی (ح): مضبوط اونٹنی۔ الأَلْیَث م لَیْثاء جمع لِیث: بہادر۔ کہا جاتا ہے هو الْیَثُ اصحابه: وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔ المِلْیَث: مضبوط قوی۔ المُلَیَّث: موٹا، چربی دار۔

۲۔ اللَیْث جمع لُیُوث و مَلْیَثَة (ح): مکڑی کی ایک قسم، خوش بیان بلیغ۔

لیس: لَیِسَ یَلْیَسُ لَیَسًا الرجُلُ: بہادر ہونا۔ تَلَیَّسَ الرجُلُ: صاحب طاقت و قوت ہونا۔ الألْیَس م لَیْسَاء جمع لِیس: بہادر، نڈر، بے خوف، بیباک (ح)، شیر، اونٹ جو ہر قسم کا بوجھ اٹھا لے۔ کہا جاتا ہے قوم لِیْسٌ و لُوْسٌ: سخت قوم۔

۲۔ لَیِسَ یَلْیَسُ لَیَسًا عنه: سے غافل ہونا۔ تَلایَسَ تَلایُسًا عنه: سے چشم پوشی کرنا۔

۳۔ لَیْسَ: حال کی نفی اور قرینہ سے غیر حال کی نفی کرنے کا لفظ۔ جیسے لَیْسَ خلقُ اللّٰه مِثلَه: اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس جیسی نہیں، یہ غیر منصرف فعل ہے اس کا وزن فَعِلَ لیکن عین کلمہ ساکن ہو گیا ہے، اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے جیسے کان اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ جیسے لَیْسَ زیدٌ قائما: زید کھڑا نہیں، اس کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں۔ اس سے استثناء کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے جاء نی القوم لیس زیداً: زید کے سوا سب لوگ میرے پاس آئے، اس کے اسم کے بعد الا بھی آتا ہے لیس الطیبُ الا المسْك: خوشبو تو صرف مشک ہے۔ جملہ فعلیہ پر آنے کی مثال: لیس یقوم زیدٌ: زید کھڑا نہیں، مبتداء اور خبر پر آنے کی مثال لیس زیدٌ قادم: لیس کی خبر پر نفی پر زور دینے کے لئے ب آتی ہے جس سے اس کا لفظ مجرور ہو جاتا ہے، اگرچہ محلاً منصوب ہوتا ہے۔ جیسے لیس اللّٰه بظالم: اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔

۴۔ لَیَّسَ الشیءُ بالشیء: ایک چیز کا دوسری سے چمٹنا یا چپکنا (عوام کی زبان میں)۔ اللَیِّسِین: (جس کے ایک قطعہ کو لیِّسِینة کہا جاتا ہے) ناکارہ ریشم، ریشم کی ردی (عوام کی زبان میں) الألْیَس م لَیْساء جمع لِیس: گھر پر ہی رہنے والا۔ کہا جاتا ہے اِبلٌ لیس علی الحوض تالاب سے جدا نہ ہونے والے اونٹ۔ المُلایِس: سست رو۔

۵۔ تَلایَسَ تَلایُسًا الرجُلُ: اچھے اخلاق والا ہونا۔ الأُلْیَس م لَیساء جمع لِیس: خوش خلق۔

○ لیس ب: نہیں ہے وہ (کوئی چیز یا شخص۔) لیس الا: صرف، اور کچھ نہیں، اسکے سوا کچھ نہیں۔ لیس ...... سوی: صرف، محض، نرا، اور کچھ نہیں۔ لیس علی شیءٍ من الحقیقة: اس میں ذرہ بھر صداقت نہیں۔ لیس۔ فقط ...... بل: یہی نہیں، بلکہ ...... بھی۔ لیس لنا شیء: ہمارے پاس کچھ نہیں۔ لیس له أن: اس کو کوئی حق نہیں کہ، اسے نہیں چاہئے کہ۔ لیس من: سے متعلق نہیں، سے متعلق نہ ہونا۔ الَیْسَ کذلك: کیا ایسا نہیں۔ لستُ بفاعل: میں یہ نہیں کر سکتا۔ لَیِسَ: بہادر ہونا، دلاور ہونا، باہمت ہونا، جرات مند ہونا، دلیر ہونا، شجاع ہونا۔ الَیِّس: دلیر، شجاع، بہادر، باہمت، جرأت مند۔ لیسانس: سند یافتہ ہونے کی ڈگری۔

لیص: لاصَ یَلِیصُ لَیصًا: ایک طرف ہونا، یکسو ہونا، مائل ہونا، جھکنا ـــ الشیءَ: کو نکالنے کے لئے ہلانا۔ اَلاصَ إلاصَةً الشیءَ: کو نکالنے کے لئے ہلانا ـــ فلانا عن کذا: کو سے پھسلانا، کے لئے ورغلانا۔

لیط: ۱۔ لاطَ یَلِیطُ لَیطًا: چمٹنا ـــ الشیءُ بقلبه: محبوب ہونا، دل سے چپکنا ...... فلاناً بفلانٍ: کو سے لاحق کرنا۔ کہا جاتا ہے ما یلیط به النعیم: اُسے آسائش راس نہیں۔ لَیَّطَ تَلْیِیطًا هُ به: کو سے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جوڑنا۔ الاطَ الإطَاطةَ اُسے چپکانا۔ اَلـلِيَـاطُ: سیمنٹ،
چونا، رنگ، سود۔ اَللِيطُ (مص): رنگ۔ اَللِيطُ:
رنگ، عادت، کھال، ہر چیز کا چھلکا کہا جاتا ہے:
اَتَيْتُهُ ولِيطُ الشمسِ لم يُقشَر: میں اس کے
پاس صبح صبح آیا جب ابھی سورج کی لالی ختم نہیں ہوئی
تھی۔ اَللِيطَة جمع لِيط و لِياط و اَلياط: نرکل کا
چھلکا، کمان، نیزے کا ڈنڈا۔
۲۔ لاطَ يَلِيطُ لَيطًا اللّٰهُ فلانًا: اللہ کا کسی کو لعنت کرنا۔
ليع: لاعَ يَلِيعُ لَيَعَانًا: تھکنا، اکتانا، بزدل ہونا، گھبرانا۔
۔ لَوعَةً ولَيْعَةً الجوعُ فلانًا: بھوک کا کسی کو سوزش
میں مبتلا کرنا۔ اَلاَّعُ: تنگ دل ہونا، رنج ہونا۔ رِيحٌ
لِيَاعٌ: سخت یا گرم ہوا۔ اَللَّيْعَةُ: لاعَ کا اسم مرۃ۔
لَيْعَةُ الجوعِ: بھوک کی شدت، بھوک کی جلن۔
ليغ: ۱۔ لاغَ يَلِيغُ لَيغًا الشيءَ: کو پر پھسلانا، ورغلانا۔
۔ الشيءَ: کو لینے کیلئے پھسلانا۔ اَلأَلْيَغُ م لَيْغاء جمع
لِيغ: صاف بات نہ کر سکنے والا، اس سے ضرب المثل
ہے: دَرّی بما عندكَ يا لَيغاءُ: یعنی دل کی بات کھل
کر بتا۔ یہ ضرب المثل اس کے لئے بولی جاتی ہے جو
دل کی بات چھپاتا ہو۔
۲۔ تَلَيَّغَ تَلَيُّغًا: بے وقوف ہونا۔ اللَّيَغُ: کامل حماقت
اَللَّيَاغَةُ: بے وقوف، احمق۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ
لِيَاغَةٌ: بے وقوف مرد۔ اَلأَلْيَغُ م لَيْغاء جمع لِيغ: بے
وقوف۔
۳۔ کہا جاتا ہے: طَعامٌ سَيِّغٌ لَيِّغٌ: خوشگوار خوش ذائقہ
کھانا۔
ليف: ۱۔ لافَ يَلِيفُ لَيفًا الطعامَ: کھانا کھانا۔
۲۔ لَيَّفَ تَلْيِيفًا فَسِيلةُ النخلِ: کھجور کے پودے کا
زیادہ اور موٹی چھال والا ہونا۔ فلانٌ الليفَ: ليف
کو بنانا۔ اَلمُلَيِّفُ فلانًا: مالشیے کا کسی کے بدن کو کھجور
کے ریشے سے ملنا، اسفنج سے ملنا۔ اللِّيفُ واحد لِيفة:
کھجور وغیرہ کی چھال، ریشہ۔ اللِّيفَانيّ: کھجور کی چھال
کے مشابہ، اسفنجی، لمبی داڑھی والا۔ لحيةٌ لِيفَانِيَّةٌ: گھنی
داڑھی۔ اَلمُلَيِّفُ: حمام کا ملازم جو بدن ملنے پر مقرر
ہوتا ہے۔
◯ لَيَّفَ هُ: کو کھجور کے ریشے سے ملنا۔ تَلَيَّفَ: ریشے
بننا، ریشہ دار ہونا۔ لِيف اسم جمع واحد لِيفة جمع
اَلياف: ریشے۔ لِيفٌ هِندي: ناریل کے ریشے،
ناریل کے ریشوں کی رسی۔ اَلْيافُ الكَتّان: پٹ سن
کے ریشے۔ لِيفَة: ریشہ، کھجور کے ریشوں کا گچھا جو
برش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لِيفَةُ الاستحمام:
نہانے کا اسفنج۔ لِيفي و لِيفانيّ: ریشہ دار۔

ليق: ۱۔ لاقَ يَلِيقُ لَيقًا و لَيقَةَ الدَّواةَ: دوات میں
صوف ڈالنا، روشنائی کو ٹھیک کرنا، ایسی دوات مَلِيقَة۔
ــــ ت الدَّواةُ: روشنائی کا دوات کے صوف سے
چمٹ جانا۔ ـــ لَيقًا و لِيَاقَةً و لَيَاقًا و لَيَعقَانًا
بفلانٍ: کے پاس پناہ لینا، سے چمٹنا۔ کہا جاتا ہے:
مَا لاقتُ بعدكَ بارضٍ: تمہارے بعد میں کہیں نہیں
ٹکا۔ هذا امرٌ لا يليق بكَ ولا يَلِيقُكَ: یہ کام
تمہارے مناسب نہیں، تمہیں زیب نہیں دیتا۔ فلانٌ لا
يَليق ببلدٍ: فلاں شخص کسی شہر میں نہیں ٹھہرتا۔ ـــ به
الثوبُ: کپڑے کا کسی کے موزوں و مناسب ہونا۔
کہا جاتا ہے: مَا يَلِيقُ ان تفعلَ كذا: تیرے لئے
ایسا کرنا مناسب نہیں۔ لَيَّقَ الطعامَ: کھانے کو نرم
کرنا۔ ـ الثريدَ بالسمنِ: ثرید میں زیادہ گھی ڈالنا۔
اَلاَقَ إلاقَةً الدواةَ: دوات میں صوف ڈالنا، دوات
کی روشنائی کو ٹھیک کرنا۔ ـــ فلانًا بنفسه: فلاں کو
اپنے ساتھ لگالینا۔ کہا جاتا ہے: ما الاقَتْنِي البصرةُ:
میں بصرہ میں نہیں ٹھہرا۔ فلانٌ لا يُلِيقُهُ بَلَدٌ: کوئی شہر
اُسے اپنے سے منسلک نہیں کرتا۔ فلانٌ ماتليق يدُهُ
شيئًا: فلاں کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ هذا
سيفٌ لا يليق شيئًا: یہ تلوار جس کو چھوتی ہے کاٹ
ڈالتی ہے۔ اِلْتَاقَ اِلْتِيَاقًا له: سے چمٹا رہنا، کے
ساتھ ساتھ رہنا۔ ـــ فلانٌ بفلانٍ: فلاں شخص کا فلاں
شخص سے دوستی کرنا، کہا جاتا ہے: اِلْتَاقَ قلبي
بفلانٍ: میرا دل اس پر آ گیا، مجھے اس سے محبت ہو
گئی۔ اِسْتَلاقَ هُ به: کو کے ساتھ جوڑ دینا۔ اللِّيق:
ایک سیاہ چیز جو سرمہ میں ڈالتے ہیں۔ اللِّيقة جمع لِيَق:
لاقَ کا اسم: دوات کا صوف، چکنی مٹی و دیوار وغیرہ لیپنے
کے لئے۔ اَللَّيَاقُ: مستقل مزاجی، چراگاہ۔ وجهٌ
مُلْتَاقٌ: خوبصورت پیارا چہرہ۔
۲۔ اِلْتَاقَ اِلْتِيَاقًا الرجلُ: مستغنی ہونا۔
۳۔ اَللِّيَاقُ: آگ کا شعلہ۔ اَللَّيق: بادل کے متفرق
ٹکڑے۔
۴۔ لَيَّقَنَ الشيءَ: پر لَيْقُونه کی تہ چڑھانا۔ لِيقُونه ایک
روغن کا نام ہے۔
◯ لاقَ ـ لَيقًا بـ: کے لئے موزوں ہونا، کو زیب دینا،
سجنا، پھبنا، کے لئے مناسب ہونا، کے شایاں ہونا، کے
لئے ٹھیک ہونا، کے لائق کے قابل ہونا، پر فٹ آنا،
کے لئے فٹ ہونا ـــ کپڑے کا سجنا، پھبنا، فٹ ہونا۔
لِيقة جمع لِيَق: صوف جو دوات میں ڈالا جاتا ہے،
پوٹین، چکنی مٹی، گارا، چونا۔ لِيَاقة: موزونیت، مناسبت،
سلیقہ، شائستگی، شعور، قابلیت، مہارت، صلاحیت،

کمال، لیاقت، کارگزاری، کارکردگی، استعداد،
اہلیت، استحقاق، خوبی، صحیح سلوک، بے داغ چال
چلن، طور طریقہ، اچھے اطوار۔ مُخِلّ باللياقة:
نامناسب، نامعقول، ناشائستہ، ناموزوں، غیر شایان
شان۔ اَلْيَق: زیادہ موزوں، زیادہ مناسب، زیادہ
ٹھیک زیادہ برمحل، زیادہ فٹ (ب کے لئے)۔ لائق:
موزوں، مناسب، ٹھیک برمحل، شایان شان، خوش،
زیبا، مطابق موافق، فٹ، قابل، لائق، سزاوار، مستحق،
قابل تعریف۔
ليل: لايَلَ مُلايَلَةً: کو ایک رات کے لئے اجرت پر
لینا۔ کہا جاتا ہے: عامَلَهُ مُلايَلَةً: اس نے اس کے
ساتھ رات کے لئے وہی معاملہ کیا جو اس نے دن کے
لئے کیا تھا۔ اَلالَ إلآلاً و اَلْيَلَ إلْيالاً القومُ: لوگوں
کا رات میں داخل ہونا۔ لَيلٌ لائِلٌ: لمبی اور سخت
تاریک رات، مہینہ کی سب سے زیادہ تاریک رات۔
اَللَّيلُ: سورج کے غروب ہونے سے فجر کے طلوع
تک کا وقت یا سورج نکلنے تک کا وقت۔ مذکر و مؤنث
جمع لَيالي۔ لَيائِل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ
الليل واحد ہے جمع کے معنی میں۔ اور اس کا واحد لَيلة
ہے جیسے ثمر کا واحد ثمرہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ الليل
الليلة کی مانند ہے جس طرح عشي اور عشيّة۔
الليلة جمع لَيْلات: بمعنى الليل یا اس کا واحد جیسے
اوپر بیان ہوا۔ اللَّيْلِيُّ: رات کی طرف منسوب، رات
کا سفر پسند کرنے والا۔ لَيْلَى الخمرِ: شراب کی
سرگرانی یا نشہ کی ابتداء۔ ام لَيْلَى: سیاہ رنگ کی شراب۔
لَيْلَةٌ لَيْلَى: طویل سخت تاریک رات۔ لَيْلَةٌ لَيْلاءُ:
طویل سخت تاریک رات۔ لَيْلٌ أَلْيَلُ و مُلَيَّلٌ: طویل
سخت تاریک رات۔
◯ لَيالي: لَيْلاً: رات کو۔ لَيْلَ نَهارَ: دن رات۔ لَيْلَة
جمع لَيْلات و لَيالٍ و لَيائِل: رات (دن کے مقابلہ
میں) شام۔ اللَّيْلَةَ: آج رات۔ بينَ لَيلةٍ و
ضُحاها: ایک رات پہلے، رات کی رات۔ لَيلة
اَمْسِ: گزشتہ رات، گزشتہ شام۔ لَيْلَةُ الدُّخْلَة:
شبِ عروسی۔ لَيْلَة راقِصَة: شام کا ناچ، شام کا رقص۔
لَيلة زاهِرة: شام کی دلفریب پارٹی۔ لَيْلَة شادِيَة:
صوتی موسیقی کی محفل۔ لَيْلَة لَيْلاء: تاریک رات۔
في لَيلةٍ لَيلاءَ: رات کی تاریکی میں، رات کے
پردوں میں۔ لَيلة القدر يا لَيلة القضاء: وہ رات
جس رات قرآن کا نزول ہوا، ۲۶ اور ۲۷ رمضان کی
درمیانی رات۔ لَيلة المعراج: ۲۷ رجب کی رات
جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سات آسمانوں کا سفر کیا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لیلۃ نصف شعبان: ۱۴ اور ۱۵ شعبان کی درمیانی رات جب عام عقیدہ کے مطابق زندگی کا آسمانی درخت ہلایا جاتا ہے اور آئندہ سال مرنے والوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ لیلۃ النقطۃ: ۱۷ جون کی رات جب آسمان سے ایک معجزنما قطرہ گرتا ہے اور دریائے نیل کے سالانہ چڑھاؤ کا سبب بنتا ہے۔ لیلتئذٍ: اس رات۔ اُمّ شر مُوشِیْئی: رات کا پہرو شبیہ شبانہ (بر)۔ رات کا شر کا شنی: ایک عورت کا نام۔ کُل یُغنّی علی لیلاہُ: ہر کوئی اپنی راگ دیتا ہے جیسے چھوٹے کرتے ہیں۔ اپنی چاہت کی پیروی کرتا ہے۔ کل یُغنّی و صلاً بلیلاہُ: ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ منتخب کیا گیا ہے۔ ہر ایک اپنے طریقے سے شیخی مارتا ہے۔ لیلیت: ایک چھوٹی جھاڑی جس کے خوشبو دار پھول چھوں کی صورت میں لگے ہیں۔

لیمان: بندرگاہ۔ معدنی قید خانہ۔

لیم لیمۃ: صحیح شکل و شباہت میں کسی سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ ھو لیمۃ: وہ قد، شکل اور جسمانی ساخت میں اس جیسا ہے۔ لیمون (ن): لیموں (درخت اور پھل)۔ لیمون نحو (ن): مالٹے سے مشابہ پھل کا درخت، جس کا رس مغربی ممالک میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لیمون الحمض (ن): کھٹا لیمو (کا درخت)۔ لیمون فلسطینی (ن): ایک درخت جس کا پھل بڑا اور مالٹے کی طرح گول ہوتا ہے اور امریکا میں چینی ملا کر کھایا جاتا ہے۔

لیمون (اسم جمع واحد لیمونۃ) جمع لیمونات: نیمو، لیموں، لیموں کا درخت۔ شراب اللیمون: لیموتیڈ، ترنجاب (lemonade)۔

لین لان یلین لینًا و لیانًا و لینۃ: نرم ہونا، ملائم، ہموار ہونا۔ صفت لیّن و لَین۔ اسم لیان جمع لیّن۔ لیّن الشیءَ: کو نرم کرنا، ملائم کرنا، ہموار کرنا۔ لاین ملاینۃ و لیانًا: سے نرمی کرنا، نرم برتاؤ کرنا، چاپلوسی کرنا، کو پھلانا۔ الان إلانۃ الشیءَ: کو نرم و ملائم بنانا۔ کہا جاتا ہے الان لہ فوہ جناحہٗ: اس نے لوگوں سے نرم برتاؤ کیا۔ استلان استلانۃ الشیءَ: کو نرم کرنا۔ تلیّن: تلیّن الشیءُ: نرم ہونا۔ تلاین: تلان فلان: سے چاپلوسی کرنا۔ استلان الشیءَ: کو نرم پانا، نرم پاتا۔ لیان (مص): زندگی کی آسودگی، نازونعمت کی زندگی۔ کہا جاتا ہے ھو فی لیان من العیش: وہ آسودگی و نازونعمت کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیّن جمع لیّنون: نرم رجل ھیّن لیّن: سادہ اور نرم مرد۔ لین (مص) واحدِلینۃ: عجوہ کے علاوہ ہر کھجور کا درخت۔ لیّنۃ: لیّن کا مؤنث، لان کا اسم مرّۃ۔ تلیین (مص): الان کا اسم نوع، کرمی، ڈھیل پن۔ لیونۃ: نرمی۔ ملیّن جمع الیناء و لیّنون و لَیّنۃ: نرم۔ لاین جمع لایین: نرم، بہت نرم۔ لیونۃ: نرمی، مہربانی، عاجز، نرم طبیعت۔ کہا جاتا ہے فیہ لین و ملیَنۃٌ: وہ نرمی و مہربانی والا ہے۔ ملیّن من الادویۃ: قبض کشا دوا۔

۲ ـ لینوفر، النیلوفر (ن): کنول کا پھول۔

لاینیٌّ: سخت، ناملائم، نہ جھکنے والا۔ استلانت فتنۃٌ: اپنے آپ کو مطیع ظاہر کرنا، نرم ہونا، جھک جانا، دب جانا۔ لیّنٌ لِقیاد: تربیت پذیری، اصلاح پذیری۔ حروف اللین: (ا، و، ی)۔ لیّنُ العریکۃ: نیک دل، سلیم الطبع۔ لیّن القیاد: اثر پذیر، قابو میں آ جانے والا، فرماں پذیر، مطیع، اطاعت شعار۔ سہلۃ لیّن: دو اسہال میں جلاب۔ لیونۃ: نجابت، فرماں برداری، اطاعت۔ ملیّنات: قبض کشا دوائیں، مسہّل دوائیں۔

لیہ لاہ یلیہ لیھًا: چھپنا، چھپا ہوا ہونا، بلند ہونا، اونچا ہونا۔

لیو: الیوان: ایوان، محل، کشادہ فراخ مکان، جو ہر سمت سے گھرا ہوا ہو (فارسی لفظ)۔

لیی: لیاء: ایک قسم کا سفید غذا۔ اللیّاء: پانی سے دور واقعہ زمین۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

م

م۔ تلفظ میم۔ حروف تہجی کا ۴۴واں حرف۔ یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ اور حروف ابجد میں ۴۰ کے برابر ہے۔ جمع مذکر پر دلالت کرتا ہے جیسے ذلکم بما کنتم تستکبرون فی الارض۔ کبھی حرف قسم کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جلالت سے مخصوص ہوتا ہے۔ جیسے: ماللہ لافعلن۔ کبھی حرف جر کے بعد استفہام کے اسم کے طور پر آتا ہے۔ جیسے بمَ و علامَ۔ اس کی اصل ما استفہامیہ ہے۔ اس پر فتحہ آتی ہے۔

○ ما: کیا؟۔ اِلٰی مَ: کدھر (کو)؟ کہاں؟ کس راستے؟ بمَ: کس کے ساتھ؟ جس سے کہ؟ لِمَ: کیوں؟ کس لئے؟ حتی ما: کتنی دور؟ کس مقام تک؟

ما ۱۔ حرف نفی جیسے: ما ھذا بشرا (یہ انسان نہیں)۔ ۲۔ حرف زائد: جیسے فبما رحمۃ من اللہ لِنتَ لھم۔ پس خدا کی رحمت سے تو ان کے لئے نرم ہوا (یعنی برحمۃ من اللہ کے معنی ہیں) ۳۔ حرف کافۃ عن العمل جیسے: کانما یساقون الی الموت (گویا وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں)۔ ۴۔ حرف مصدر جیسے: وضاقت علیھم الارض بما رحبت (ای برحبھا) باوجود فراخ ہونے کے زمین ان پر تنگ ہوگئی۔ ۵۔ مصدریہ کے ساتھ وقت ملحوظ ہوتا ہے، اور مصدریہ ظرفیہ کہلاتا ہے، جیسے: واوصانی بالصلوٰۃ والزکاۃ مادمتُ حیًّا (اس نے مجھے زندہ رہنے تک نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا یا اس نے مجھے اس وقت تک نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ گویا عربی میں کہا گیا مدۃ دوامی حیاً (زندہ رہنے تک یا اس وقت تک جب تک میں زندہ رہوں) ۶۔ اسمیہ استفہامیہ اور اس سے غیر عاقل کے متعلق سوال کیا جاتا ہے جیسے: ماعندك (تیرے پاس کیا ہے۔ اور عاقل کی صفات کے بارے میں بھی اس کے ذریعے پوچھا جاتا ہے جیسے: مازیدٌ (زید کیا ہے؟) تو مثلاً جواب میں کہا جائے گا: عاقلٌ او احمقُ: عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ ۷۔ حرف سے مجرور ہو تو اس کا الف محذوف ہو جاتا ہے اور میم پر فتحہ رہ جاتی ہے۔ جیسے: بمَ و علامَ (کس سے، کس پر)۔ کبھی میم ساکن بھی ہو جاتی ہے۔ ۸۔ اسم موصول کے طور پر جیسے: ماعندکم ینفد و ما عند اللہ باق (ای الذی عندکم) (جو کچھ تمہارے پاس ہے، ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا)۔ ۹۔ جزاء کے اسم کے طور پر: مایفعَلْ افعَلْ: جو کچھ وہ کرے گا میں کروں گا اس صورت میں یہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے اور دونوں فعل مجزوم ہوتے ہیں۔ ۱۰۔ تعجب کے اسم کے طور پر جیسے: ما اَحْسَنَ زیداً (زیاد کیا ہی خوبصورت ہے!) مصدر کی تاویل میں فعل کے ساتھ ما اسمیہ کے طور پر جیسے: بَلَغَنِی ما صنعت (ای صنیعك) (مجھے تیرا فعل پہنچ گیا۔ یعنی جو تو نے کیا مجھے پہنچ گیا۔ ۱۱۔ نکرہ موصوفہ کے طور پر جیسے: مررتُ بما معجبٍ لك (ای بشیءٍ معجبٍ لَكَ) (میں ایسی چیز سے گزرا جو تجھے پسند ہے) ۱۲۔ ابہام کے لئے بطور اسم جیسے: اُعْطِنی کتاباً ما: مجھے کوئی کتاب دے۔ جاء لامرٍ ما (ای لامرٍ من الامور) (وہ کسی کام سے آیا)۔ یہ ما ابہامیہ کہلاتا ہے لیکن اس قول میں جیسے غسلتُہُ غسلاً نِعِمَّا تو یہ غسلتہُ نِعمَ الغسل کے مفہوم میں ہے یعنی میں نے اس کو خوب دھویا۔

۲۔ الماھیۃ من الامر او الشَی: کسی چیز یا امر کی حقیقت، نوعیت یا جو کیا جائے اور ہر وہ چیز جو یہ پوچھنے والے کے جواب میں کہے کہ ماھو (وہ کیا ہے؟) خصوصیت، خاصیت، ماہیت، وصف، خصلت، خاصہ، جوہر، ست، روح، نوع، نوعیت، بناوٹ، ترکیب، ساخت، قسم۔

۳۔ الماء: دیکھیں موہ۔

○ ما: کیا۔ لِما: کیوں۔ کس لئے، کس وجہ سے؟ ماذا: کیا؟ لِماذا: کیوں؟ مالَكَ: تمہیں کیا ہوا۔ یہ کیا ہے مَالِیْ ومالك (وغیرہ) کیوں، کس لئے، کس وجہ سے، میں کیوں، تم کیوں؟ ماانتَ و ذاك: اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ ما اَجْمَلَہٗ: وہ کتنا خوبصورت ہے؟ ما افضَلَ عمرَ: عمر کتنا اعلیٰ ہے: ۲۔ وہ جو، جو، جو کچھ بھی، جو بھی، وہ سب۔ کثیراً ما: اکثر، اکثر اوقات، بارہا، بسا اوقات۔ بما فیہ: جس میں کوئی چیز شامل یا داخل ہو، پر مشتمل۔ (کے) سمیت، مع، بشمول، ساتھ، ما کان من امضاء المعاھدۃ: یہ حقیقت کہ معاہدہ پر دستخط ہو گئے ہیں، معاہدہ پر دستخط ہو کر۔ ۳۔ کچھ، کوئی، کوئی ایک، ایک خاص، بعض مخصوص، تھوڑا سا، لامرٍ ما: کسی بات کی وجہ سے، کس وجہ سے، یوماً ما: کسی دن، مستقبل میں کسی وقت۔ ۴۔ ما اِن: نہیں، نہ۔ ما اِن حتّٰی: اِدھر (ایسا ہوا) اُدھر۔ بمشکل (ایسا ہوا) جب ...... ومَا ھِیَ اِلاَّ اَنْ وما ھو الا ان: جلد ہی، تھوڑی دیر میں، لازمی طور پر، اسی وقت، اس وقت، تب، چنانچہ اس سبب سے وما ھی الا ان ...... حتّٰی: جونہی، جونہی کہ، جیسے ہی، (وہ) ابھی بمشکل ...... کہ ...... ۵۔ مادمتُ: جب تک میں۔ مادمتُ حیًّا: جب تک میں زندہ رہوں یا رہا۔ مَالَمْ: جب تک ...... نہ، جب تک نہ۔ ماواتتنیَ الفرصُ: جب بھی مجھے موقع ملا۔ مابین: پیش دالان۔ ڈیوڑھی، میر صاحب

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کا دفتر (عثمانی ترکیہ میں)۔ماتینیہ: سینما کا صبح کا شو،
تیسرے پہر کا ناٹک۔مــاجستیــر: ماسٹر،سکول
ماسٹر۔مَاخُور جمع مَوَاخِیر: چکلہ۔قحبہ خانہ۔
ماج: ا۔مَوْجَ ۔ مُؤوجَۃً: بے وقوف ہونا۔الماج: بے
وقوف،بے آرام،مضطرب،اضطراب۔
۲۔مَوُجَ ۔ مُوُوجَۃُ الماءِ: پانی کا کڑوا اور کھارا ہونا۔
المَاجُ: کڑوا اور کھارا پانی۔
ماد: مَادَ ۔ مَادًا: نرم و نازک ہونا النباتُ او الشجرُ:
نباتات کا لہلہانا، تروتازہ ہونا اور اس میں پانی بہنا۔
درختوں کا لہلہانا، تروتازہ ہونا اور ان میں پانی بہنا۔
اَمَادَ الریُّ النباتَ: آبپاشی کا نباتات کو تروتازہ
کرنا۔اِمْتَادَ الخیرَ: بھلائی کمانا۔المَادُ و
الیَمُوُدُ: تروتازہ نازک۔کہا جاتا ہے رجُلٌ غُصْنٌ
مَادٌ و یَمُوُدٌ: تروتازہ اور نرم نازک مرد۔جاریۃ
مَادَۃٌ و یَمُوُدٌ و یَمُوُدَۃٌ: تروتازہ اور نرم
نازک لڑکی۔المِید: نازک۔
مأر: ا۔مَأَرَ ۔ مَأْرًا بین القومِ: قوم میں فساد ڈلوانا،قوم
کو فساد پر ابھارنا، مَئِرَ ۔ مَأَرًا علی فلان: کیلئے
دشمنی محسوس کرنا۔مَاءَرَ مِمَارًا و مُمَاءَرَۃً بین
القومِ: قوم میں فساد ڈلوانا، قوم کو فساد پر ابھارنا۔اِمْتَأَرَ
علی فلانٍ: کے لئے نفرت محسوس کرنا، سے نفرت
کرنا۔المِئْرُ: مفسد، فسادی ـــ من الامور: سخت
مشکل کام۔المِئَر۔مفسد۔المِئْرَۃ جمع مِئَر:
دشمنی، چغل خوری۔امرٌ مَئِیرٌ: سخت کام۔
۲۔مَأَرَ ۔ مَأْرًا السقاءَ: مشک کو وسیع کرنا۔مَئِرَ ۔ مَأَرًا
الجرحُ: زخم کا خراب ہونا، سوج جانا۔
۳۔مَاءَرَ مِمْتَارًا و مُمَاءَرَۃً: بے فخر میں مقابلہ
کرنا......ہٗ فی فعلہ: کی کام میں برابری کرنا۔تماءَ
رکماؤرًا: آپس میں فخر کرنا۔
☆مــار: (عیسائیوں کے ولیوں کے ناموں سے پہلے لگایا
جاتا ہے بمعنی روحانی نواب۔ولی (عیسائیوں میں)
مَارِس: مارچ (مہینہ)۔مَارِسْتَان: پاگل خانہ۔مارش:
چلتے وقت فوج کا گیت،کوچ کی دھن۔مــارشــال:
مارشل،فیلڈ مارشل۔مــارشــال جوی: ایئر مارشل
(air marshal) مــارشــالیۃ: مارشال کا عہدہ یا
حیثیت۔مَارْک جمع مارکات: مارک۔(نظام زر کے
متعلق یونٹ) مــارکسی: کارل مارکس کا پیروکار۔
مارکسی۔مــارکسیۃ: مارکسزم۔marxism مارکۃ
جمع مارکات: مارک۔نشان،نشانی، ٹوکن مــارکۃ
تجاریۃ: ٹریڈ مارک (trade mark) مــارونی
maronite (اسم وصفت) (جمع مَــوَارِنَۃ

مازوت: مازوت mazut، بھاری تیل۔
ماس: مَاسَ ۔ مَأْسًا علیہ: پرغضبناک ہونا۔ بین
القوم: لوگوں میں فساد ڈلوانا۔ الدبَّاغ الجلدَ:
رنگریز کا چمڑے کو ملنا، مسلنا۔ ـــ و مَئِسَ ۔ مَأْسًا
الجرحُ: زخم کا سوجنا، خراب ہونا، کشادہ ہونا۔
المَأْسُ: وہ شخص جو کسی کی نصیحت پر توجہ نہ کرے اور
قبول نہ کرے۔المائِس و المَاآس و المؤوس
و المِمْأَس و المِمْآس: چغل خور۔فساد انگیز۔
مفسد۔
☆مَاس و مَاسَۃ (الماس کیلئے): ہیرا۔الماس۔ماسی:
ہیرے جیسا۔
ماسُورَۃ جمع مَوَاسِیر: پائپ۔ٹیوب۔پانی دینے والی نرم
نالی (hose)۔پانی کا پائپ،نل۔بڑی نالی (water
main)، بندوق (وغیرہ) کی نالی، بڑی نالی
کا پائپ۔ پائپ لائن (pipeline) خصوصاً تیل
کی۔مَــاسُــون، فری میسن freemason۔
مَاسُونی: فری میسنی۔مَاسُونِیۃ: فری میسن نظام
(freemasonry) (فری میسن: ایک خفیہ انجمن
(دراصل مسیحی) کا رکن)
مأش: مَأَشَ ۔ مَأْشًا عنہ بکذا: کو سے کے ذریعے
ہٹانا......المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو سیراب
کرنا۔مطرٌ مَئِیشٌ: زمین کو سیراب کرنے والی
بارش۔
☆مــاشِك جمع مَوَاشِك: چمٹا، آگ کا چمٹا۔ (fire
tongs - tongs)
مأق: مَئِقَ ۔ مَأَقًا الصبیُّ: بچہ کا ہچکی لینا۔صفت مَئِق۔
الرجُلُ: سخت غضبناکی سے رونے والا ہونا۔اَمْأَقَ:
ہچکی لینا۔اِمْتَأَقَ: ہچکی لینا، سسکی لینا۔غضبہٗ: سخت
غضبناک ہونا۔الیَّ بالبُکاءِ: میرے پاس روتے
ہوئے آنا۔المَأق: رونے کی شدت۔شدت گریہ۔
جمع آماق و اَمْآق و مَوَاقِ مآق و المُؤْقِی
والمَوقِی و المَاقی جمع مَآق: ناک کی طرف آنکھ
کا کویا۔گوشہ چشم جہاں سے آنسو بہتے ہیں۔المَئِق:
جلد رو پڑنے والا۔ اس سے مثل ہے: انا تَئِقٌ و
انت مَئِقٌ: تئق جلدی سے شرارت کرنے اور انتقام
لینے والے کو اور مئق جلدی سے رونے لگنے والے کو
کہتے ہیں۔مثل دو مختلف مزاج والوں پر بولی جاتی
ہے۔دوسرا شخص رونے پر اکتفاء کرتا ہے اور جوابی
کاروائی نہیں کرتا۔المَأْقَۃ: شدت غضب، غصہ کی
تیزی،حمیت، غرور، تکبر۔المَأَقَۃ: گریہ۔رونا،ہچکی۔
ہچکی۔المُؤْق و المُوق جمع آماق و اَمْآق و مَوَاق

و مَآق۔ (ع): ناک کی طرف کا آنکھ کا کویا۔ــ جمع
آماق من الارض: زمین کے نشیبی اطراف یا پوشیدہ
اطراف۔المَوَاقِی واحد مَاقِی: ناک کی طرف
آنکھوں کے کوئے۔
☆مَئِق ۔ مَأَقًا: سسکی بھرنا۔سسکی لینا ہچکی لینا۔مَأْق جمع
مَآق: آنکھ کا اندرونی گوشہ۔مَأْقَۃ: ہچکی ۔سسکی ہچکی ہچکی
بھرنا،سسکی لینا۔مُوق جمع آمــاق: آنکھ کا اندرونی
گوشہ۔
☆مَاکِیاج: میک اپ۔بناؤ سنگار۔
مَاکِینَۃ جمع مَاکینات و مَکائِن: مشین (machine)
مال: مَالَ و مَیَلَ ۔ و مُوْلَ ۔ مُؤُولَۃً و مَالَۃً: موٹا
ہونا، ہٹا کٹا ہونا صفت مَیِّل و مَالٌ: کہا جاتا ہے: جاءَ
ہٗ امرٌ ما مَالَ لہٗ مَالًا: اس کو ایسا معاملہ پیش آیا جس
کے لئے وہ تیار نہ تھا اور نہ اس کو اس کا علم تھا۔
المَآلُ: پناہ گاہ، جائے پناہ۔المَالَۃ جمع مِثال: باغ،
چکی۔المُتَمَیِّل: سیدھا دراز قامت مرد۔
۲۔المَالِج جمع مَوَالِج: کرنی۔لپائی کو برابر کرنے کا آلہ۔
فارسی لفظ ہے۔فصیح عربی میں اسے المِسیَعۃ کہتے
ہیں۔عوام کہتے ہیں بمالش یمالج (ہمزہ کے
بغیر)۔
☆مالطہ: مالٹا Malta ایک ملک کا نام۔مَالَطِی (صفت
اور اسم) مالٹا کا، مالٹا کا باشندہ۔
مَالَنْخولیا یا مَالِیخولیا: مالخولیا۔خفقان۔وحشت۔سودا
(Melancholia)
مأم: مَأْمًا مَأْمَأَۃ الشاۃُ او الظبیۃُ: بکری یا ہرنی کا
ممیانا۔میں میں کرنا۔
مأن: ا۔مَأَنَ ۔ مَأْنًا القومَ: کو خوراک دینا۔کہا جاتا ہے
مَانَهُمْ یمونهم (اجوف سے)......الرجُلَ: سے
چوکنا رہنا، بچنا۔کہا جاتا ہے: اتانی ھذا الامرُ فما
مَانْتُ لہٗ مَأْنَہٗ و ما مَانْتُ مَأْنَہٗ: یہ معاملہ مجھے پیش آیا تو
میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی یا اس کا مجھے علم نہ ہوا یا
میں اس کے لئے تیار نہ تھا اور میں نے اس کے لئے
کوئی تیاری نہیں کی تھی۔کہا جاتا ہے: امأَنْ مَأْنَكَ و
اشأنْ شأنكَ: جو تجھے اچھا لگے وہ کر۔انا اَمْأَنُہٗ: میں
اسے اچھی طرح کرتا ہوں۔مَأَّنَ تَمْئِنَۃً الشیءَ: کو
تیار کرنا......فلانًا: کو بتانا، اطلاع دینا۔فی الامر: پر
غور کرنا، نظر کرنا۔سوچنا۔مَاءَنَ مُمَاءَنَۃً فی الامر:
پر غور و تدبر کرنا۔المَأن: کدال۔المُؤْنَۃ و المَؤُوْنَۃ
جمع مُؤَن: خوراک، شدت، بوجھ۔المَئِنَۃ: نشان،
علامت۔المَمْأَنَۃ: مناسبت، موزونیت۔اہلیت،
قابلیت۔کہا جاتا ہے: ھو مَمْأَنَۃٌ لکذا: وہ اس کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اہل ہے۔وہ اس کے لئے موزوں ہے۔
۲۔مَأَنَ - مَأناً الرجُلَ: کے ناف پر مارنا۔المَأن: کمر۔ پہلو۔المَأنة جمع مَأنات و مؤُون۔کمر۔پہلو۔ناف اوراس کے گرد کا حصہ۔
۳۔تَمَاءَنَ تَمَاؤُناً الشئُ: پرانا ہونا۔
☆مَأَنَ - مَأْنَاہ: کوخوراک مہیا کرنا،کھانے پینے کا سامان فراہم کرنا، ذخیرہ فراہم کرنا،کوسامان خوردونوش فراہم کرنا۔مَأنَة جمع مَأن و مؤُون: ناف۔نافہ۔نانہالی علاقہ۔مُؤْنَة و مَؤُونة جمع مُؤَن: سامان خوردونوش خوراک، ذخیرہ، سٹاک (stock)۔ سپلائی۔ بوجھ۔جھنجھٹ۔ دقت۔ تکلیف۔ زحمت۔ مشکل۔ محنت۔کوشش۔مُؤَنٌ حَرْبِية: سامان حرب۔
ماو: مَا: يَمُوُو مُؤَاءً السَنورُ: بلی کا میاؤں کرنا۔۔۔ الجلدَ: چمڑے کو کھینچ کر چوڑا کرنا۔۔۔ بينهم: لوگوں میں فساد برپا کرنا۔تَمَاَی تَمَیّاً الجلدُ: چمڑے کا کھنچ کر چوڑا ہونا۔ ...الشرُّ بينهم: لوگوں میں فساد پھیلنا۔المَأْوَة جمع مَأْوٌ: نشیبی زمین۔
مأی: ا۔مَأَیَ يَمْأَی مَأياً الجلدَ: چمڑے کو کھینچنا ۔۔۔ الشجرُ: درختوں کا پتوں سے بھر جانا ۔۔۔ بينهم: لوگوں میں فساد ڈالنا۔۔۔فی الامر: میں مبالغہ کرنا۔ تَمَأَی تَمَئِّياً السقاءُ: مشک کا چوڑا اور پھیلنا۔ ..... الشرُ بينَ القوم: لوگوں میں فساد کا پھیل جانا۔
۲۔مَأَیَ يَمْأَی مَأياً القوم: لوگوں اور اپنے آپ کو شامل کرکے سو ا ں کرنا۔صفت مَمْئِيُّون: أمْأَی إمْآءً القومُ: لوگوں کا سو ہو جانا صفت مُمْئُون ۔۔۔ القومَ: قوم کا اپنے سمیت تعداد میں سو کرنا۔المِائَة جمع مِئَات و مِئُون و مُئُون و مُؤُون و مِای (لکھنے میں الف کے ساتھ مگر لفظاً نہیں): سو۔نسبت کے لئے مِئوِی۔کہا جاتا ہے شارطهُ مُمَاءَاةً: اس نے اس کے ساتھ سو پر یا سو سو کی شرط لگائی جیسے کہا جاتا ہے شارطه مُؤالفةً: اس نے اس کے ساتھ ہزار ہزار کی شرط لگائی یا ہزار پر شرط لگائی۔
☆فی المئة: فی صد۔فیصدی۔مِئوِی و مِئيني: ۔ سوواں عيدٌ مِئوِی: سودیں سالگرہ۔صدسالہ سالگرہ۔نِسْبَةٌ مِئَوية یا نِسْبَةٌ مِئِينِية: فی صد۔ درجة مئوية: سنٹی گریڈ (Centigrade)۔
مايو: مئی (May)
مت: مَتَّ مَتّاًہ: کو کھینچنا۔۔۔الحبلَ: رسی کو بغیر چرخ کے کھینچنا۔إلی فلان بقرابةٍ: سے تعلق پیدا کرنا۔۔۔کا رشتہ دار ہونا کہا جاتا ہے مت بيننا رَحِمٌ ماتة: ہمارے درمیان قریبی رشتہ داری ہے۔۔۔ہُ: سے قرابت ڈھونڈنا۔مَاتَّ فلاناً: کو رشتہ کے تعلقات یاد دلانا۔ الماتّة جمع مَوَاتٌّ و المَتَات: وسیلہ، قرابت۔رشتہ داری،حرمت۔
○مَتَّ - مَتّاً ہ: کو پھیلانا، بڑھانا، لمبا کرنا، وسیع کرنا، کھینچنا (میں) مبالغہ کرنا۔۔۔۔ إلی ب: کے ساتھ بذریعہ شادی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرنا،۔۔۔۔ إلی کے ساتھ تعلقات میں حصہ لینا، شادی کرکے کا رشتہ دار ہونا یہ ہو جانا، کے خاندان میں شادی کرنا، کے متعلق ہونا، کا ساتھی بننا، رفیق بننا، ہم صحبت ہونا، سے متحد ہونا، سے مربوط ہونا۔مَتَّ بصلة إلی: کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنا، شادی سے کسی کا رشتہ دار ہونا۔ سے مربوط ہونا، سے تعلق ہونا۔مت له بأقرب الصلة: کے ساتھ انتہائی خوب اور گہرا تعلق ہونا۔ مَاتّة: قریبی تعلقات، خاندانی تعلقات، رشتہ داری۔
متأ: مَتَأَ - مَتْأهُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔
متح: ا۔مَتَحَ - مَتْحاً الماءَ: پانی کنویں سے نکالنا۔ الدلوَ وبها: ڈول کھینچنا۔صفت فاعلی مَاتِحٌ و مَتوح ..... الشئَ: کو اکھیڑنا۔الشجرةَ: درخت کاٹنا۔الخمسين: پچاس کے قریب ہونا۔تَمَتَّحَت الابلُ فی سيرها: اونٹوں کا چلتے ہوئے پاؤں ہلانا۔اِمْتَتَحَ الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔المتاح: بہت لمبا۔کہا جاتا ہے يوم مَتَّاحٌ و فرسخ متاح: بہت لمبا دن۔ بہت لمبا فرسنگ (لمبائی کا پیمانہ)۔ المَتوح: پانی نکالنے والا۔ڈور۔بئر مَتوحٌ: قریب پانی والا کنواں۔
۲۔مَتَحَ - مَتْحاً و مَتَّحَ و أمْتَحَ الجرادُ: ٹڈی کا انڈے دینا۔
۳۔مَتَحَ - متحاً فلاناً: کو مارنا، پچھاڑنا۔
○مَتَحَ - مَتْحاہ: پانی کنویں سے نکالنا
متخ: ا۔مَتَخَ - مَتْخاً الشیءَ: کو اکھیڑنا۔کاٹنا، اونچا کرنا۔۔۔بالدلو: ڈول کھینچنا۔۔۔الشیءُ: بلند ہونا۔ ......الخمسين: پچاس کے قریب ہونا۔۔۔۔۔الشیءَ: کو اکھاڑنا۔عودٌ مِتِّيخ: لمبی اور نرم لکڑی۔
۲۔مَتَخَ - مَتْخاً بسلحه: بیٹ کرنا۔۔۔۔ہُ بالسهم: کو تیر سے مارنا۔۔۔۔فلاناً: کو مارنا۔دور کرنا۔المِتِّيخة: چھڑی، لاٹھی، کوڑا (جس سے مارا جائے)۔
۳۔مَتَخَ - مَتْخاً الجرادُ: ٹڈی کا انڈے دینا۔۔۔۔فی الشیءِ: میں گڑ جانا۔
متد: مَتَدَ - مُتوداً بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔
متر: ا۔مَتَرَ - مَتْراً الحبلَ: رسّی کو کھینچنا۔تَمَاتَرَ القومُ الشیءَ: کو مل کر کھینچنا۔اِمْتَرَ اِمْتَاراً الحبلُ: رسی کا کھنچنا۔المِتْر جمع امتار: میٹر۔المِتيُورو كراف: موسمی حالات میں تغیر ریکارڈ کرنے کا آلہ۔
۲۔مَتَرَ - مَتْراً بسلحه: بیٹ کرنا۔تَمَاتَرَ: گرنا۔
۳۔مَتَرَ - مَتْراً الشیءَ: کو کاٹنا۔
○مِتْرِی: میٹر سے متعلق، پیمائش سے متعلق۔
مِتْرَ اليُوز: مشین گن۔
متس: مَتَسَ - مَتْساً الشیءَ: کو اکھیڑنے کے لئے جھکانا۔
متش: مَتَشَ - مَتْشاً الشئَ: کو انگلیوں سے بکھیرنا۔ جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔۔۔اخلافَ الناقة: اونٹنی کو آہستہ آہستہ دوہنا۔مَتِشَ - مَتَشاً ت عينهُ: دھوپ کی تمازت یا بھوک سے آنکھ کا چندھیانا، دھندلی ہونا۔ جس کی آنکھ چندھیا جائے یا دھندلی ہو جائے اسے اَمْتَش کہتے ہیں۔ مونث مَتْشاء جمع مُتْش۔
متع: ا۔مَتَعَ - مُتوعاً الشئُ: لمبا ہونا، دراز ہونا۔۔۔ النهارُ: دن چڑھنا یا سر پر آ جانا۔۔۔السرابُ: پہلے پہر سراب کا بلند ہونا۔۔۔۔الحبلُ: رسی کا مضبوط ہونا۔ ......النبيذُ: نبیذ کا بہت سرخ ہونا۔۔۔الرجلُ: سخی وخوش طبع ہونا۔۔۔مَتْعاً و مُتْعَةً بالشیءِ: کو لے جانا۔ مَتُعَ - مَتَاعَةً الرجُلُ: خوش طبع ہونا، ظریف ہونا۔ مَتَّعَ الشیءَ: کو لمبا کرنا۔۔۔ہُ اللّهُ بكذا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی چیز سے دیر تک فائدہ اور حظ اٹھانے دینا۔۔۔۔المرأةَ المطلّقةَ: مطلقہ عورت کو مہر دینا۔ أمْتَعَهُ اللّه بكذا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی چیز سے دیر تک فائدہ اور حظ اٹھانے دینا۔کہا جاتا ہے أبْقاكَ اللّهُ و أمْتَعَ بكَ: اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے۔۔۔ بماله: کے مال سے فائدہ اٹھانا۔متمتع ہونا۔۔۔۔عن كذا: سے مستغنی ہونا۔کہا جاتا ہے أمْتَعَنی بفراقه: اس نے اپنی جدائی کو میری متاع بنا دیا۔تَمَتَّعَ و اِسْتَمْتَعَ بكذا و من كذا: سے عرصہ تک فائدہ اور لذت حاصل کرنا۔۔۔ بماله: مال سے آسودہ زندگی گزارنا۔المَاتِع (فا): طویل۔دراز، بہت عمدہ چیز۔ بہت اونچے یا نیچے پلڑے والا ترازو۔عمدہ، عمدہ بٹی ہوئی رسی۔بہت سرخ نبیذ یا سرکہ۔رجُل ماتِع: اچھی عادتوں میں کامل۔المُتْعَة: مشک۔ڈول۔رسی۔۔۔ والمتعَة جمع مُتَع و مِتَع: تَمْتِيع کا اسم۔تھوڑا زاد، ذریعہ معاش، شکار یا خوراک جس سے تمتع حاصل ہو۔ کہا جاتا ہے ابْغِنی متعةً اعيش بها۔ذریعہ معاش حاصل کرنے میں میری مدد کرتا کہ اسکے ذریعے زندگی بسر کروں۔مُتْعَةُ المرأةِ، قمیص۔آزار و چادر جو مطلقہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عورت کو دیے جاتے ہیں۔ یہی متعة الطلاق ہے۔ المَتَاع جمع أَمْتِعَة و جمع الجمع اَمَاتِع و أَمَاتِيع: چاندی سونے کے علاوہ زندگی کا سامان، پہننے اور بچھانے کی چیزیں۔ ہر وہ فانی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پھر وہ فنا کی نذر ہو۔ کہا جاتا ہے: انما الحياة الدنيا متاعٌ: دنیا کی زندگی محض فائدہ اٹھانے کی چیز ہے جسے دوام نہیں۔

۲۔ مَتَعَ ـ مَتْعاً و مُتْعاً بفلان: سے جھوٹ بولنا۔

○ مَتَعَ ـ مَتْعاً و مُتْعَةً ب: کو لیجانا۔ مُتوعاً: مضبوط، سخت اور ٹھوس ہونا۔ متعَ النهارُ: دن چڑھ آنا، سورج کا اونچا ہونا۔ مَتَّعَ ہ ب: کو سے لطف اندوز کرنا۔ ــــہ بِ کو کچھ فراہم کرنا، کو سے لیس کرنا، کو کچھ مہیا کرنا۔ ــــ مطلقہ عورت کو کچھ بطور معاوضہ دینا۔ مَتَّعَهُ اللّٰه: اللہ تعالیٰ اسے تمام عمر خوشیاں دے۔ مَتَّع البصرَ: آنکھ کی تسکین کرنا۔ اَمْتَعَ ہ ب: کو سے لطف اندوز کرنا۔ ...... ب: کا بلا ملکیت حق استعمال و استفادہ رکھنا۔ تَمَتَّعَ و اِسْتَمْتَعَ ب: سے لطف اندوز ہونا، مزا اٹھانا، سے استفادہ کرنا۔ مُتْعَة جمع مُتَع: لطف، خوشی، لذت، سرور، تسکین، فرحت، تفریح، مطلقہ عورت کو دیا گیا ہرجانہ/ معاوضہ، تلافی۔ متعة: عارضی شادی جنسی لطف اندوزی کے لئے اور مقررہ وقت کے لئے ملکیت کے حق کے بغیر شادی۔ اسے نکاح المتعة بھی کہا جاتا ہے۔ اماكن المتعة: مراکز تفریح مَتَاع جمع اَمْتِعَة: لطف، خوشی، تسکین، خوشی کی چیز، ضروریات زندگی، خانگی سامان، جائداد منقولہ، اثاثہ، سامان، مال، مال تجارت، فرنیچر، سامان، برتن، گھر کے استعمال کی چیزیں، روز مرہ استعمال کی چیز، اشیاء چیزیں، متفرقات۔ متاع العين: آنکھوں کا سامان راحت۔ سَقَطِ المتاع: سکریپ۔ ردی۔ الامتعة الشخصية: ذاتی سامان۔ متاع المرأة: شرمگاہ۔ أَمْتَعَ: زیادہ پرلطف، زیادہ راحت بخش، زیادہ مسرت بخش۔ تفریحی، فرحت افزا۔ اَسْهُمُ تَمَتُّع: شرکت کی اسناد، حصے جن سے ان کا حامل ووٹ کے حق کے بغیر خالص منافع میں شریک ہو جاتا ہے۔ مُمَتِّع: خوشگوار۔ مزیدار۔ لطیف، پرلطف، راحت بخش، مسرت بخش، تسکین دہ، طمانیت بخش، مُمْتِع: خوشگوار، مزیدار، لطیف، پرلطف، راحت بخش، مسرت بخش تسکین دہ، طمانیت بخش، دلچسپ، مُمَتَّع ب: سے لطف اندوز۔ سے استفادہ کرنے والا، پر قابض۔

متك: مَتَكَ ـ مَتْكاً الشيءَ: کو کاٹنا۔ مَاتَكَ مُمَاتَكَةً ہ في البيع: پر بیع کی مہارت میں غالب آنا۔ تَمَتَّكَ الشرابَ: (شراب یا مشروب) گھونٹ گھونٹ کر کے پینا۔ المَتْك: مکھی کی ناک۔ (ن) لیمو۔ (ن) سوسن: مکھی کا گوہ۔ المُتْك و المُتُك: مکھی کی ناک۔ (ن) لیمو۔ سوسن۔

متل: مَتَلَ ـ مَتْلاً الشيءَ: کو ہلانا، حرکت دینا۔

متن: ا۔ مَتَنَ ـ مُتُوناً ہ بالسوط: کو زور سے کوڑے مارنا۔ ...... الشيءَ: کو کھینچنا۔ ...... الرجُلُ: سفر کرنا۔ ...... بفلان: کے ہمراہ دن بھر چلنا۔ ـ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـ مَتْناً و أَمْتَنَ فلاناً: کی پیٹھ پر مارنا۔ مَتُنَ ـ مَتَانَةً: سخت ہونا، مضبوط ہونا، قوی ہونا۔ صفت مَتْن و مَتِين۔ مَتَّنَ الخيمةَ: خیمہ کو خوب کسنا۔ ــــ الشيءَ: کو مضبوط کرنا۔ سخت کرنا۔ ـ الدلوَ: ڈول کو مضبوط باندھنا۔ الطعامَ: کھانے کو مصالحہ دار بنانا ـ لمن سابقَهٗ: آگے بڑھنے والے سے کہنا کہ تم فلاں مقام تک پہنچو میں تم سے آکر مل جاؤں گا۔ مَاتَنَ فلاناً: کو بہت دور کرنا۔ کو ٹالنا، الرجُلَ: سے اس جیسی ٹال مٹول کرنا۔ ہُ في الشِعرِ: سے شعر گوئی میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا۔ کہا جاتا ہے: بينهما مُمَاتَنَةٌ: ان دونوں میں آپس میں ہر بات میں مقابلہ ہے۔ تَمَاتَنَ الشاعِرَانِ في الشعر: شعر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ المَاتِن (فا): کتاب کا مصنف (شارح کے مقابلہ میں)۔ المَتْن (مص) جمع متان و مُتُون: پیٹھ (مذکر و مؤنث) مَتْنُ الشيء: چیز کا ظاہری حصہ۔ مَتْن الارض: زمین کا بلند اور ہموار حصہ۔ مَتْنُ الطريق: راستہ کا درمیان۔ مَتْنُ الكتاب: کتاب کی اصل عبارت بغیر شرح و حاشیہ۔ مَتْن اللُغَة: لغت کے اصول و قواعد اور مفردات۔ مَتْنَا الظهر: پیٹھ کے ہر دو رخ اور پہلو۔ کہا جاتا ہے: سَارَ مَتْنَ النهار: وہ تمام دن چلا۔ المَتْنَة جمع مِتَان و مُتُون: سخت و بلند زمین۔ مَتْنَةُ الظهر: پیٹھ کا پہلو۔ المتان جمع مُتُن: دو عمودوں کے درمیان کا فاصلہ۔ المتَانَة: شدت۔ طاقت۔ کہا جاتا ہے: في رأيه متانة: اس کی رائے میں شدت اور طاقت ہے۔ سنجیدگی ہے۔ المَتِين جمع مِتَان: بہت سخت۔ طاقت ور۔ مضبوط۔ قوی: کہا جاتا ہے: حبل متين ورای متين: مضبوط رسی اور رائے۔ ...... في اسماءہ تعالى: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ بہت مضبوط جسے اپنے افعال میں کوئی مشقت اور تکلیف نہیں کرنی پڑتی۔ التَمْتِين (مص) جمع تَمَاتِين و التِمْتَان: خیمہ کی رسیاں۔ سيرٌ مُمَاتِن: دور کا سفر۔ کہا جاتا ہے: سار سيراً مماتناً: وہ بہت چلا۔

۲۔ مَتَنَ ـ مُتُوناً الكبشَ: مینڈھے کے بیضے رگوں سمیت نکالنا۔

۳۔ مَتَنَ ـ مُتُوناً الرجُلُ: قسم کھانا۔

○ مَتُنَ ـ متانةً: مضبوط، قوی اور ٹھوس ہونا۔ مَتَّنَ ہ: کو سخت اور مضبوط بنانا، کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، استوار کرنا، کی قلعہ بندی کرنا۔

مَتْن جمع مُتُون و مِتان: پیٹھ کا نصف یا پہلو۔ پیٹھ (خصوصا جانوروں کی نیز مجازاً)، بڑی یا اصلی چیز، بڑا حصہ، دھڑ، متن (کسی دستاویز یا اخبار رسالہ وغیرہ کا، (حواشی اور شرحوں وغیرہ کے بغیر۔ کسی حدیث کا متن، اسناد کے بغیر۔ کتاب کا متن، تبصرہ کے بغیر۔ عموماً لغوی اور ادبی متن۔ سڑک کا درمیانی حصہ۔ پختہ فرش والی جگہ۔ سطح۔ عرشہ۔ جہاز۔ على متنِ: جہاز، کشتی یا طیارے میں۔ على متن البحر: بذریعہ سمندر، جہازوں پر آنے والا مال وغیرہ)۔ على متن الهواء: بذریعہ فضا، ہوائی جہاز میں آنے والا (سامان وغیرہ) مَتْن و متين: مضبوط، قوی، ٹھوس۔ متَانَة: پائداری، ثابت قدمی، طاقت۔ قوت۔ زور۔ مضبوطی۔ سنگینی۔ استواری۔ سختی۔ دشواری۔ خود ارادی۔ ارادہ۔ عزم۔ ریڑھ کی ہڈی، کردار کی مضبوطی۔ ہمت۔ برداشت۔ تحمل ضبط۔ ایجاز۔ اجمال۔ اسلوب کی بلاغت۔ تمتين: مضبوط کرنا، مضبوطی۔

متہ: مَتَهَ ـ مَتْهاً الدلوَ: ڈول نکالنا۔

مَتِهَ ـ مَتَهاً: بیہودہ اور فضول باتوں میں مشغول رہنا۔ تَمَتَّهَ: دور ہونا۔ میں مبالغہ کرنا، بیہودہ باتوں میں مشغول ہونا۔ حیران ہونا بے وقوف ہونا۔ بے وجہ تعریف کا طالب ہونا، تکبر کرنا۔ تَمَاتَهَ عن الشيء: سے غافل ہونا۔ ...... القومُ: دور ہونا۔

متو: ا۔ مَتَا يَمتوا مَتْوًا الشيءَ: کو کھینچنا، اُمْتَى إمْتَاءً: بہت رزق والا ہونا۔ عمر دراز ہونا۔ بری طرح چلنا۔ تَمَتَّى: انگڑائی لینا۔

۲۔ مَتَا يَمتو مَتْوًا ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

۳۔ مَتَى: زمانہ کے بارے میں سوال کرنے کا اسم: کب۔ اسم شرط دو فعلوں کو مجزوم کرتا ہے: مَتَى اضع العمامة تعرفوني: (جب میں عمامہ اتاروں گا تو تم مجھے پہچان لوگے۔) جب، جس وقت۔

○ مَتَى: جب، کس وقت؟ إلى مَتَى و حَتَّى متى: کب تک؟ کتنی دیر؟ کب، جب۔ جب بھی۔ متى ما: جب بھی۔

مث: ا۔ مَثَّ ـ مَثًّا العظمُ: ہڈی کا گودا بہہ جانا۔ ــــ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الرَّقُّ و السقاءُ: مشک کا ٹپکنا۔ الرجُلُ: موٹاپے کی وجہ سے پسینہ بہنا۔ کہا جاتا ہے: جَاءَ يمتُّ: وہ آیا تو اس کی جلد پر تیل جیسی چکنائی نظر آتی تھی۔ ۔۔الحدیثَ: بات پھیلانا۔ ۔۔یَدَہٗ: رومال سے ہاتھ پونچھنا۔ ۔۔شارِبَہٗ: مونچھ کی چکنائی کو ہاتھ سے پونچھنا۔ ۔۔الجرحَ: زخم صاف کرنا۔ نبتٌ مَتَاثٌ: نم پودا۔

۲۔ مُتُمتٌ مَتْمَثَةً و مِتماثاً الرقُّ السمنَ و نحوہٗ: گھی وغیرہ کے مشکیزہ کا رسنا۔ اسم المَتْماث۔ ۔۔ الفتیلَةَ: بتی کو تیل سے خوب تر کرنا۔ ۔۔امرَھم: کے معاملہ کو خلط ملط کرنا۔ ۔۔فلاناً: کو پانی میں غوطہ دینا۔ ۔۔الشیءَ: کو ہلانا۔

○ مَتَاث: کریم، سنگار کا سامان، غازہ، گلگونہ۔

متج: مَتَجَ ۔ مَتْجاً الشیءَ: کو خلط ملط کرنا۔ ۔۔فلاناً: کو کھانا کھلانا۔ ۔۔البئرَ: پانی نکال کر کنواں صاف کرنا۔ بالعطیة: عطیہ بخشنا۔

مثد: مَثَدَ ۔ مَثْداً بین الحجارة: پتھروں میں چھپ کر گھات میں بیٹھنا اور دیدبانی کا کام انجام دینا۔ الرجُلَ: کو دیدبان مقرر کرنا۔ الماثِد (فا): دیدبان

مثل: ا۔ مَثَلَ ۔ مُثولاً فلاناً: کے مانند ہونا، کے جیسا ہونا۔ ۔۔التماثِيلَ: مجسّے بنانا۔ ۔۔فلاناً بفلان: کو سے تشبیہ دینا۔ ۔۔مَثْلاً و مُثْلَةً بالرجل: کو عبرت ناک سزا دینا ۔۔بالقتیل: مقتول کا مثلہ کرنا، کے ناک کان کاٹ دینا۔ مَثُلَ ۔ مَثَالَةً: فضیلت والا ہونا۔ مَثَّل تَمثِیلاً الشیءَ لفلان: کی ہو بہو تصویر بنانا۔ ۔۔الحدیثَ و بالحدیث: بات کو بیان کرنا ۔۔المِثالَ: کو نمونہ بنانا۔ ۔۔التماثِیلَ: مجسّے بنانا۔ ۔۔بفلان: کو عبرت ناک سزا دینا ۔۔۔ بالقتیل: مقتول کا مثلہ کرنا، نک کان وغیرہ کاٹ ڈالنا۔ تمثیلاً و تمثالاً الشیءَ بالشیءِ: کو سے تشبیہ دینا، کو اس جیسا بنانا، کے مانند بنانا۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں: مَثَّل الروایة: ڈراما سٹیج پر لانا، ڈراما کرنا۔ ڈرامہ سٹیج پر پیش کرنا۔ ۔۔دوراً فی الروایة: (ڈراما میں) کا کردار ادا کرنا، رول ادا کرنا، کھیل میں بڑا اداکار یا اداکارہ ہونا۔ ۔۔۔بلادَہٗ فی بلاد اخری: اپنے ملک کی کسی دوسرے ملک میں نمائندگی کرنا ۔۔۔ شخصاً فی حفلة او غیرھا: کسی تقریب وغیرہ میں کسی شخص کی نمائندگی کرنا، کا قائم ہونا، کی طرف سے کام کرنا۔ ان سب میں اسم تمثیل ہے، جو مصدر پر مبنی ہے۔ ماثَلَ مُماثَلَةً ۔۔ہٗ: کے مشابہ ہونا ۔۔۔ ہٗ بفلان: کو سے تشبیہ دینا۔ اَمْثَلَ ہٗ فلاناً و بہ: کو اس کے مانند بنانا۔ ۔۔۔الحاکِمُ فلاناً: کو حاکم کا قصاص میں قتل کرنا۔ ۔۔الحاکِمُ فلاناً من فلان: حاکم کا کسی سے قصاص لینا۔ تَمَثَّلَ الحدیثَ و بالحدیث: کو بیان کرنا۔ ۔۔ الشیءَ: کی مثال کا تصور کرنا ۔۔لہ الشیءُ: کا تصور ہونا۔ کو نظر آنا، کو لگنا، معلوم ہونا۔ ۔۔بالشیء: کو محاورے کے طور پر استعمال کرنا۔ کی ضرب المثل بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے: ھذا البیت مَثَل یُتَمَثَّل بہ: یہ مصرعہ ایک مثال ہے جس کو محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ۔۔منہ: سے بدلہ لینا۔ ۔۔مثالاً: کو نمونہ بنانا ۔۔بہ: کے مشابہ ہونا۔ آج کل کہا جاتا ہے: تَمثّل الادبَ: اس نے آپ کو ادب میں گم کر لیا ہے۔ وہ ادب میں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ ۔۔الغذاءُ: غذاء کا اپنی صورت کھو دینا اور کھائی ہوئی غذا کی شکل اختیار کرنا۔ تَمَاثَل الشیئان: باہم مشابہ ہونا۔ ۔۔العلیل من عِلّتِہٖ: بیمار کا صحت یابی کے قریب ہونا۔ اِمْتَثَلَ المَثَل و بالمثل: مثال بیان کرنا۔ ۔۔الشیءَ: کسی شئے کے نمونہ پر بنانا۔ ۔۔الطریقةَ: طریقہ کی پیروی کرنا۔ ۔۔من القاتل: قاتل سے قصاص لینا۔ المِثْل جمع اَمْثَال: شبہ، نظیر، مشابہت، مماثل (مذکر مونث، تثنیہ اور جمع کے لئے) کہا جاتا ہے: ھو و ھی و ھما و ھم و ھنّ مِثْلُہٗ: وہ (مذکر) وہ (مونث) وہ دو مذکر و مونث اور وہ (جمع مذکر) اور وہ جمع مونث) اس کی مانند ہے اور ہیں)۔ ھم امثالھم (وہ ان کے مانند ہیں) بھی کہا جاتا ہے۔ فلانٌ مُستراد لِمِثْلِہٖ: اس کی مثل طلب کی جاتی ہے اور اس کی حرص کی جاتی ہے۔ اسی طرح: ھی مُستَرادة لِمثلھا۔ المَثَل جمع اَمثال: مشابہ، نظیر، بات، کہاوت، عبرت، صفت، دلیل، حجت۔ المَثْلَة: عقوبت، عبرت ناک سزا، جیسے ناک کان کاٹنا۔ آفت۔ المَثُلَة جمع مَثُلات: گزری ہوئی صدیوں میں نازل ہونے والا عذاب جس سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ عقوبت، عبرت ناک سزا۔ المِثال جمع اَمْثِلَة و مُثُل و مُثْل ۔ مقدار، شبہ، چیز، قصاص۔ المَثَالَة: فضیلت، اچھی حالت۔ المِثالی: مثالیت پسند، اصول پرست (idea list)۔ الشیء المثالی (چیز) مثالی، معیاری۔ المِثالیَّة: اصول پرستی، مثالیت، تصوریت (idealism)۔ المُثَیل جمع مُثُل: شبیہ، نظیر، ہمسر۔ الاَمْثَل جمع اماثِل و مُثُل مونث مُثْلی: افضل، بہتر، کہا جاتا ہے: المریضُ الیوم اَمْثَلُ: مریض کی حالت آج بہتر ہے۔ اَماثِل القوم: قوم کے برگزیدہ۔ الطریقة المُثلی: حق کے مشابہ راستہ۔ الاُمثُولة جمع اماثِیل و اُمثولات: اشعار کے وہ مصرعے جن کو محاورے کے طور پر بیان کیا جائے۔ التِمثال جمع تماثِیل: تصویر، مجسمہ۔ التمثّل و التمثیل فی الغذاء: غذا کا اپنی صورت کھو دینا اور کھائی ہوئی چیز کی صورت اختیار کرنا۔

۲۔ مَثَلَ ۔ مُثُولاً القمرُ: چاند کا ظاہر ہونا، غائب ہونا (ضد)۔ ۔۔ الرجُلُ: اپنی جگہ سے ہٹنا۔ زمین سے چمٹنا۔ ۔۔ و مَثُلَ ۔ مُثولاً بین یدی فلان: کے سامنے کھڑا ہونا۔ تَمثّل بین یدیہ: کے سامنے کھڑا ہونا۔ اِمْتَثَل الامرَ: حکم بجا لانا۔ الماثِل (فا) جمع مُثَّل من الرسوم: مٹا ہوا نشان۔ کہا جاتا ہے: مِثل مَاثِل: مشہور مثال۔ الماثِلة: ماثل کا مونث: لیمپ، چراغدان۔

۳۔ المِثال جمع اَمْثِلَة و مُثُل و مُثْل: بستر

○ مَثَلَ ۔ مُثولاً ہ: کے مشابہ ہونا، کسی جیسا ہونا، پا نظر آنا، کی مشابہت رکھنا، کی نقل کرنا، تقلید کرنا، کی نقل اتارنا، کے نقش قدم پر چلنا ۔۔ ہ ب: کو سے تشبیہ دینا، ۔۔ ہ: کا نمونہ ہونا، کا مطلب ہونا، کے معنی ہونا، کا مظہر ہونا، کی علامت ہونا، پر مشتمل ہونا۔ ۔۔۔ بین یدیہ: کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا۔ کے روبرو پیش ہونا۔ ۔۔۔ اپنے آپ کو آنکھ کے سامنے پیش کرنا، نظر آنا، دکھائی دینا، کھڑا ہونا، آگے آنا، داخل ہونا (خصوصاً اداکار کا سٹیج پر آنا، مثل بین یدی المَلِك: بادشاہ کی خدمت میں شرف باریابی پانا، بادشاہ کا کسی کو شرف باریابی بخشنا ۔ مَثَلاً ب: کو زخمی کرنا، اس کے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ کرنا، کے ہاتھ پیر کاٹنا۔ مَثْلاً و مُثْلَةً ب: کسی کو دوسروں کے لئے تازیانہ عبرت بنانا۔ مَثُلَ ۔ مُثولاً بین یدیہ: کے سامنے کھڑا ہونا، پیش ہونا۔ مَثَّلَ ہ ب کو کے مانند بنانا، کو سے مشابہ بنانا، کو کسی جیسا بنانا، کو کے مماثل بنانا۔ ذہن نشین کرنا۔ ب ل/ ہ علی: کو مثال کے طور پر پیش کرنا ۔۔۔ ب ل: کی مثال دے کر کسی کو سمجھانا ۔۔۔ ہ ب: کو کسی کی ہو بہو نقل (تشبیہ) کے طور پر استعمال کرنا ۔۔۔ ھ ب: کو سے تشبیہ دینا۔ ۔۔ب: کو سخت سزا دینا، سے سختی کے ساتھ پیش آنا، کو زخمی کر کے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ بنانا، کے ہاتھ پیر کاٹنا ۔۔۔ ہ/ہ: کو دکھانا، کو تصویر سے یا وضاحت سے پیش کرنا، کی تصویر کھینچنا، کا تصور کرنا، کی لفظوں میں تصویر کھینچنا، بیان کرنا، کو نقل کرنا ۔۔۔ ہ: کی رنگین تصویر کھینچنا، کا نیم مجسمہ بنانا، کا مجسمہ بنانا ۔۔۔ ھ/ہ: کی نمائندگی کرنا۔ سٹیج یا سکرین پر اداکاری کرنا، بطور اداکار پیش ہونا ۔۔۔ دوراً: پارٹ یا رول ادا کرنا۔ کسی رول میں بطور بڑا اداکار یا اداکارہ کام کرنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ﮧ کھیل کو سٹیج کرنا، تمثیل پیش کرنا، مَثّل به أشنعَ تِمثیل: کو کی دہشتناک مثال بنادینا، کوسخت ترین ظالمانہ سزادینا۔ مَاثلَ ہ / ﮧ: کے مشابہ ہونا، کے مانند ہونا، کے مانند دکھائی دینا، کی مشابہت رکھنا، کے مماثل ہونا، کسی شخص یا چیز جیسا ہونا، ہ ب: کو سے تشبیہ دینا۔ تَمثَلَ ب: کسی کی مانند ہونا، کا ہم شکل ہونا، کا اتباع کرنا، کی شکل پر ہونا، کی شکل اختیار کرنا — ﮧ: کو جذب کرنا، سمونا۔ — ب: کی طرح کرنا، کی نقل کرنا۔ — ب: کا تصور کرنا — ﮧ: کا خیال آنا۔ — ب: کو بطور مثال پیش کرنا یا کو بطور تشبیہ استعمال کرنا۔ — فی: میں دکھائی دینا، پیش ہونا۔ ہ: کو مجسم کرنا، کو عملی شکل دینا یا عملی شکل میں لانا، کو شخص تصور کرنا، کو مجازی رنگ میں پیش کرنا کو نمونہ بنانا۔ بین یدیه: کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا، کے روبرو پیش ہونا۔ تَماثَلَ: باہم مشابہ ہونا، ہم شکل ہونا، مشابہ ہونا۔ — من: سے صحت یاب ہونا۔ تماثل للشفاء یا الی الشفاء: روبصحت ہونا۔ اِمتَثَل ہ: کو بطور نمونہ یا مثال لینا، کی نقل کرنا، کی اتباع کرنا۔ — ل: کی اطاعت اختیار کرنا، کی فرمانبرداری کرنا، کا محکوم ہونا، کے زیرنگیں ہونا۔ — ہ: حکم ماننا، حکم کی تعمیل کرنا۔ مِثل جمع اَمثال: ایک جیسی، مشابہ، مماثل (چیز) ایسی ہی قسم کی (چیز) مشابہت، مماثلت تشبیہ۔ ہو بہو نقل، شکل، بھیس، تصویر، عکس، مساوی، ہم معنی، کے مانند، جیسا، جیسی، مِثلَ و کَمِثلِ: کے مانند، کے مشابہ، کے مماثل۔ هم مِثلُه: وہ اس کے مانند ہیں۔ وہ اس کی قسم کے ہیں۔ بالمثل: اسی طرح اسی انداز سے یکساں، برابر، نیز بھی۔ مِثلَ ما: کے علاوہ، مزید برآں، بالکل اسی طرح۔ بمثل ما: بالکل اسی انداز سے، اسی طرح

اجرُ المثل: کافی ادائیگی یا تنخواہ۔ عَامَلَهُ بالمثل: کو ویسا ہی بدلہ دینا، سے ویسا ہی سلوک کرنا۔ مبدأ المعاملة بالمثل: عمل رد عمل کا اصول، رعایت باہمی اصول۔

مقابلة المثل بالمثل: انتقامی کارروائی، انتقام۔

اَمثَالُهُ: اس جیسے لوگ، اس کی قسم کے لوگ۔

امثالُ ابی بکر: حضرت ابوبکر جیسے لوگ۔ الی ثلاثة امثاله: تین گنا، مِثلما: جیسا۔ مِثلِی: جس کی جگہ دوسرا لے سکے، جسے ہٹایا جا سکے۔ قابل تبادلہ۔

مَثَل جمع امثال: مشابہت، تشبیہ استعارہ۔ مثال، تمثیل، کہاوت، ضرب المثل، مقولہ، مثال، سبق، مماثل حالت، نصب العین، نمونہ، مَثلاً: مثال کے طور پر، مثله کمثل: وہ کے مشابہ ہے، کے مانند ہے۔ مَثَل أسمیٰ یا مثل اعلیٰ: نصب العین، مطمح نظر، آئیڈیل۔

الامثال السائرة: کہاوتیں۔ علی رأی المَثَل: کہاوت کے مطابق، جیسا کہ کہاوت ہے: مِثَال جمع اَمثِلَة و مُثُل: یکساں چیز، ایک جیسی، مشابہ، مماثل (چیز)۔ استعارہ تشبیہ، تمثیل، مثال، کہاوت، مقولہ، ضرب المثل، مثالیہ، مجازیہ (allegorry) مثال، نمونہ، معیار، عبرتناک سزا، ماڈل، تصویر (image) علی مِثال: کے انداز میں، کے اسلوب پر، کے نمونہ پر۔ مِثال اعلیٰ جمع مُثُل علیا: آئیڈیل نصب العین۔ مطمح نظر۔ مُثُل عالیه: ideals۔ مِثالی: تمثیلی، مثالی، مجازی، مثالی امتیازی نمائندہ نمونہ، سبق آموز، عبرت ناک، عبرت انگیز۔

مثالی النزعَة: مثال پسند، مشابہت پسند۔

مَثّال: جمع مثالون: سنگ تراش، مجسمہ ساز۔ مَثَالَة: مثالیت، سبق آموزی، کمال، برتری جمع مثالات و مثائِل: سبق، کام، تفویض۔ مَثِیل جمع مُثُل: مانند، ایک جیسا، مماثل، مشابہ، یکساں، ہمسر، برابر کا، ہم مرتبہ، مدمقابل۔ مثیلمؤنث مثیلتها: اس کی قسم کا، اس کی قسم کی، لامثیل له، لیس له مَثِیل اور لم یسبق له مثیل: بے نظیر، بے مثال، یکتا، یگانہ۔ مُثُول: سیدھا کھڑا ہونا، پیش پیش کشی، باریابی۔ اُمثُوله جمع اُمثولات و اماثیل: مثال، سخت ترین یا شدید ترین مثال، تنبیہ، سبق، کہاوت کام۔ اَمثَل مونث مُثلَی جمع أماثِل: کمال کے قریب تر، نصب العین کے قریب تر ہونے والا، مثالی، سبق آموز، کامل۔ السبیل المُثلی لِ: کا مثالی راستہ۔ تِمثال جمع تماثیل: مجسمہ، بت، سوار کا مجسمہ، تمثال نصفی: سر کا مجسمہ، نیم مجسمہ (bust)۔ تمثیل جمع تماثیل: مثالوں کا اقتباس، توضیح، نقل، مثال، تشبیہ، صورت گری، تصویر سازی، شبیہ سازی، تصویر کشی، الفاظ میں تصویر کشی، مصوری، بیان، نمائندگی، سفارتی نمائندگی، ڈرامائی نمائندگی، ایکٹنگ، ایکٹر کا کوئی رول ادا کرنا، انجام دہی، بجا آوری، عمل، کرتب، شو، ڈرامائی آرٹ، عبرت ناک سزا، تمثیل تجاری: تجارتی ایجنسی، تمثیل فلانٍ: (فلمی اشتہاروں میں) ممتاز اداکار اور اداکارائیں فلاں فلاں۔ بدل التمثیل: نمائندگی کا الاؤنس، پیشہ ورانہ اخراجات کا الاؤنس۔ خرچہ الاؤنس۔ دار التمثیل: تھیٹر، منڈوا، غنائیہ خانہ (opera house) فن التمثیل: ڈرامائی آرٹ، تھیٹر، مجسمہ سازی، سنگتراشی، نقاشی، بت تراشی، بت گری، علی سبیل التمثیل: تشریح یا توضیح کے

marfat.com

تَمثِیلی: تھیٹر یا سٹیج سے متعلق، ڈرامائی انداز کا اداکاری کا، اداکاروں اور اداکاراؤں کا، اداکاری سے متعلق، اداکار سے متعلق، دکھاوے کا، ظاہرداری کا، ناٹکی، تمثیلی، سوانگ کے متعلق تماشہ گاہ میں دکھائے جانے کے قابل اچانک۔ ملعب تمثیلی: تھیٹر، منڈوا، تمثیلیه غنائية: اوپرا Opera۔ مماثلة: مشابہت، مماثلت، یکسانیت، تشبیہ، ملتی جلتی شکل و صورت، مطابقت، موافقت، تناسب، قطعی برابری، مساوات، تمثل: رچ بس جانا، جذب ہونا، تماثل: برابر کا ہونا، ٹکر کا ہونا، مساوی ہونا، ہم خیالی، ہم آہنگی، اتفاق رائے کا مطابقت، موافقت، لگاؤ، مشابہت، مماثلت، یکسانیت، صحت یابی، افاقہ۔ امتثال: حکم کی تعمیل، اتفاقرائے فرمانبرداری اطاعت حکم کی بجا آوری۔ مَاثِل: کھڑا رکھا ہوا، نمائش کیا ہوا، نمائش میں، ظہور میں آنے والا، سامنے آنے والا، اچانک آپڑنے والا، خلاف توقع پڑنے والا، نظر آنے والا، معلوم ہونے والا، لگنے والا، ظاہر ہونے والا، خود پیش ہونے والا، ماثل امام عینیه: کی آنکھوں کے سامنے حاضر، ماثل للعیان: آنکھوں کے سامنے، مرئی، واضح، جاذب توجہ، ظاہر، ماثلٌ فی حضرته: کے سامنے، کی موجودگی میں۔ ماثِلة: لمپ، شیشے کا جھاڑ۔ مُمَثِّل: نمائندگی کرنے والا، نمائندہ، نمائندگی سے متعلق جمع مُمَثِّلون: نمائندہ، سفارتی نمائندہ، ڈپٹی، ایجنٹ، موسیقار، مطرب، کھلاڑی، سٹیج کا کھلاڑی، ایکٹر، اداکار، مزاحیہ اداکار comedian۔ ممثل تجاری: تجارتی ایجنٹ۔ مُمَثِّلة جمع مُمَثِّلات: اداکارہ (actress)۔

مُمَثِّلِيّة: نمائندگی۔ ایجنسی۔ مُمَثِّلِيَّة سیاسية: سفارتی نمائندگی۔ مُمَثَّل: بیان کردہ، نقل لفظوں میں تصویر کھینچا ہوا، تصویر کھینچا ہوا، شبیہ بنایا ہوا، نمائندگی کیا ہوا، ذہن نشین کیا ہوا۔ مماثل: مشابہ، مانند، کی طرح کا، ملتا جلتا، مثل، مطابق، ہم شکل: مُتَماثِل: باہم مشابہ، مانند، ملتا جلتا، ایک جیسی قسم کا ہم نسبت، ہم مقدار، ہم وزن، یکساں، مساوی، ایک دوسرے کے مطابق، ویسا ہی، اسی شکل کا، ہم شکل، ہو بہو ملتا جلتا، رچ بس جانے والا، ذہن نشین ہونے والا۔ مُمتَثِل: فرمانبردار، حکم کی تعمیل کرنے والا۔ فرمانبردار۔ مطیع اطاعت شعار، اطاعت پذیر، انقیاد پذیر۔

مثن: مَثَنَ ـُ مَثنا الرجل: کے مثانہ پر مارنا۔

مَثِنَ ـَ مَثَناً: مثانہ میں پیشاب نہ روک سکنا۔ صفت اَمثَن و مَثِن مونث مثناؤ و مَثِنة: مُثِنَ مَثناً: مثانہ کی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بیماری والا ہونا۔ صفت مَمْثُون و مَثِین ۔ المثانۃ جمع مَثَانات: پیشاب کے رہنے کی جگہ (انسان اور حیوان میں)۔ بچہ دانی۔

مجّ: ۱۔ مَجَّ ۔ مَجًّا الشرابَ او الشیء و بہ من فمہ: منہ سے پانی یا کوئی چیز پھینکنا۔ استعارہ کے طور پر کہتے ہیں: ھذا کلام تمجہ الاسماعُ: یہ ایسا مکروہ کلام ہے کہ کان اس کو پھینکتے ہیں اور سننا نہیں چاہتے۔ مَجَّجَ العنبُ: انگور کا میٹھا ہونا۔ خوش ذائقہ ہونا۔ أَمَجَّ العودُ: لکڑی کا تر ہونا۔ اِنْمَجَّ: ٹپکنا۔ السَاجّ (فا) جمع مُجّاج و مَاجُّون: جس کی رال بڑھاپے کی وجہ سے ٹپکتی ہو۔ المُجّ: پتھر پر شہد کے قطرے۔ المَجّۃ: مَجّ کا اسم مرّۃ۔ کہا جاتا ہے: مابقی فی الاناء الا مَجّۃ: برتن میں صرف اتنا رہ گیا ہے جو ایک بار میں منہ سے پھینکا جاتا ہے، یعنی کلی بھر۔ المُجُج (ح): شہد کی مکھیاں، مست لوگ۔ المَجَج: باچھوں کا ڈھیلا پن۔ انگوروں کا پکنا۔ المُجَاج: تھوک۔ مُجَاج النحل: شہد۔ مُجَاج العنب: شراب۔ مُجَاج المزن: بارش۔ کہا جاتا ہے: خبزَ مُجاجًا: اس نے مکئی کی روٹی پکائی۔ المُجَاجَۃ: تھوک۔ مُجَاجَۃُ الشیء: نچوڑ۔ المَجّاج: بہت کلی کرنے والا۔ کاتب۔

۲۔ أَمَجَّ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنے لگنا۔ ـــ الرجُلُ: کسی ملک میں پھرنا۔

۳۔ المَجّ: ماش کے دانے۔ المُجّاج: ٹہنی۔ شاخ، ماش کے دانے۔

۴۔ مَجْمَجَ الکتابَ: تحریر کو صاف نہ لکھنا۔ ـــ فی حدیثہ: بات صاف نہ کرنا۔ المَجْمَاج: ڈھیلا۔ بہت یا موٹے گوشت والا۔

مَجَّ ہ: کو تھوکنا، اگلنا، باہر نکالنا۔ کو مسترد کرنا، کو دل سے نکالنا، کو (بے کار سمجھ کر) پھینک دینا۔ مَجَّج: پک جانا، پکنا، شیریں ہونا۔ مُجَاج و مُجَاجَۃ: تھوک، لعاب دہن، رس۔

مجح: مَجَحَ ۔ مَجْحًا و مَجِحَ ۔ مَجَحًا و تَمَجَّح الرجُلُ: تکبر کرنا، فخر کرنا ـــ الدلوَ فی البئر: ڈول کنویں میں ہلانا۔ المَجّاح: تکبر کرنے والا۔ متکبر۔

مجد: ۱۔ مَجَدَ ۔ مَجْدًا: بزرگی والا ہونا۔ ـــ فلانًا: پر بزرگی میں غالب ہونا۔ مَجُدَ ۔ مَجَادَۃً: بزرگی والا ہونا۔ صفت ماجد و مَجید جمع امجاد۔ مَجَّدَ فلانًا: کی تعظیم کرنا، کی تعریف کرنا، کی بزرگی کی طرف نسبت کرنا۔ مَاجَدَ مِجَادًا و مُمَاجَدَۃً ہُ: کا بزرگی میں مقابلہ کرنا۔ اَمْجَدَ فلانًا: کی تعظیم کرنا، کی بزرگی کی طرف نسبت کرنا ـــ فلانٌ وُلْدَہُ ولِوُلْدِہ: کے لئے بہترین ماؤں کا انتخاب کرنا۔ کہا جاتا ہے: ھولاء قومٌ اَمْجَدَھُمْ ابوھم: ان لوگوں کے والد نے ان کے لئے بہترین ماؤں کا انتخاب کیا تھا۔ تَمَجَّدَ: بزرگ ہونا۔ تَمَاجَدَ: باہم فخر کرنا۔ اپنی بزرگی بیان کرنا، کہا جاتا ہے تماجدوا فیما بینھم: انہوں نے آپس میں فخر کیا اور اپنی بزرگی بیان کی۔ اِسْتَمْجَدَ: بزرگی کا طالب ہونا، اچھے صفات میں مشہور ہونا۔ المَجْد (مص) جمع اَمْجاد: عزت، بلندی۔ بلند زمین۔ الماجد (فا) مونث ماجدۃ جمع مَوَاجد: بزرگی والا، خوش خلق۔ الامْجَد جمع اَمَاجد: اسم تفضیل: زیادہ بزرگ۔ المَجیدی: آل عثمان کے سلاطین میں سلطان عبدالمجید کی طرف منسوب چاندی کا سکہ جس کی قیمت ۲۰ قرش تھی۔

۲۔ مَجَدَ ۔ مَجْدًا الراعی الإبلَ: چرواہے کا اونٹوں کو چارے سے سیر کرنا۔ ...... مَجْدًا و مُجُودًا ت الإبل: اونٹوں کا بہت چارے والی زمین میں سیر ہو کر چرنا صفت ماجدۃ جمع مواجد و مُجَّد و مُجُد۔ مَجَّدَ الراعی الإبلَ: چرواہے کا اونٹوں کو چارے سے سیر کرنا۔ العطاءَ: بہت بخشش عطا کرنا۔ لفلان من کذا: کو سے زیادہ کرنا۔ اَمْجَدَ العطاءَ: بہت بخشش عطا کرنا ...... لفلان من کذا: کو سے زیادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ أَمْجَدَہُ ذمًّا و سبًّا: کی بہت عیب گوئی کرنا اور اس کو بہت گالیاں دینا۔ نزلو ابھم فامجدوھم قِرىً: وہ ان کے پاس بہت کچھ لے کر آئے۔ ...... الراعیُ الابلَ: چرواہے کا اونٹوں کو چارے سے سیر کرنا۔ ...... ت الإبلُ: اونٹوں کا بہت چارے والی زمین میں سیر ہونا۔ شیءٌ ماجدٌ مونث مَاجدۃ جمع مَوَاجد: بہت چیز۔

مَجَدَ ۔ مَجْدًا و مَجُدَ ۔ مجادۃً: پرشکوہ ہونا، شاندار ہونا، مشہور ہونا، نامور ہونا، سرفراز ہونا۔ مَجَّد و اَمْجَدَ: تعریف کرنا، تعریف کے پل باندھنا، حمد و ثنا کرنا، ستائش کرنا، حمد کرنا، شہرت کرنا، تَمَجَّدَ: تعریف کیا جانا، ستائش کیا جانا، حمد کیا جانا، حمد و ثنا کیا جانا، ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا، مایۂ فخر ہونا، اترانا۔ مَجْد جمع امجاد: ناموری، مایۂ ناز، بزرگی، جلال، شان، جلوہ، تجلی، شان شوکت، شان و شکوہ، کر و فر۔ بڑائی، عظمت، شرافت، عالی ظرفی، قدر و منزلت، نیک نامی، شہرت، امتیاز۔ مَجْدِی: لائق ستائش، قابل تعریف، ستودہ، پرشکوہ۔ مجید: پرشکوہ، مشہور نامور، جلیل القدر، نمایاں شاندار، معروف، محمود، قابل تعریف، لائق ستائش، عمدہ، بہت خوب، عالی شان، عالی ظرف۔ الکتاب المجید: قرآن۔ امجاد (مجید کی جمع)، ممتاز لوگ، عالی مرتبہ لوگ، عظمت و رفعت کے مالک۔ اَمْجَد جمع اَماجِد: زیادہ پرشکوہ، زیادہ روشن، زیادہ تاب دار، زیادہ مشہور، زیادہ معروف، زیادہ نامور، زیادہ عالی مرتبہ، زیادہ گرامی قدر، زیادہ ممتاز، زیادہ نمایاں۔ تمجید: تعریف، ستائش، حمد و ثنا، تکبیر۔ تجید، تنویر، سربلندی، سرفرازی، معبود بنا لینا، حد سے زیادہ احترام۔

مجر: ۱۔ مَجِرَ ۔ مَجَرًا: پیاسا ہونا۔ مَجِرَ ۔ مَجَرًا من الماء و نحوہ: کے پیٹ کا پانی سے بھرنا مگر سیراب نہ ہونا۔ ـــ و أَمْجَرَت الشاۃُ: پیٹ میں بچہ بڑا ہونے سے بکری کا بوجھل ہونا اور اٹھ نہ سکنا۔ المَجْر: بڑی فوج۔ بہت ہر چیز کا۔ المَجَر: حاملہ بکری کے پیٹ میں بچہ کا بڑا ہونا۔ شاۃٌ مَجِرَۃٌ: حمل بڑا ہونے سے کمزور بکری۔ الأَمْجَر: بڑے پیٹ اور دبلے جسم والا۔ المُمْجِر من النساء جمع مَمَاجِر: جڑواں بچے جننے والی عورت۔

۲۔ مَاجَرَ مِجارًا و مُمَاجَرَۃً و اَمْجَرَ فلانًا فی البیع: سے زیادہ لینا، سود لینا۔ المَجْر: حاملہ اونٹنی اور بکری کے پیٹ کا بچہ۔ حاملہ جانور کے پیٹ کے بچہ کا خریدا جانا۔ زیادتی، سود، جوا۔

۳۔ المَجْر: عقل۔ المَجَر: ملک ہنگری۔ ملک ہنگری کے باشندے۔ اس ملک کے سونے کے سکوں کی ایک قسم۔ المِجَار: اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی۔

مَجِرَ ۔ مَجَرًا: پیاسا ہونا، پیاس لگنا، پیاس محسوس کرنا۔ مَجْر: بہت بڑا لشکر۔ مَاجُور جمع مَوَاجیر: پنالی۔ ناند، کونڈا۔ مَجَرِی: ملک ہنگری کا۔ مَجْرِیط: میڈرڈ (Madrid)۔

مجس: مَجَّسَ ہُ: کو مجوسی بنانا۔ تَمَجَّسَ: مجوسی ہونا۔ المَجُوس: سورج یا آگ کی پرستش کرنے والے۔ واحد مَجوسی: کبھی مجوسی، جادوگر، دانا اور فلسفی کو بھی کہتے ہیں۔ (یہ لفظ میخ کُوش سے جو فارسی لفظ ہے مُعَرَّب ہے۔ اس کے معنی چھوٹے کانوں والا ہے۔ المَجُوسِیَّۃ: مجوسی کا مونث، مجوسیوں کا مذہب

مجع: ۱۔ مَجَعَ ۔ مَجْعًا و مَجْعَۃً و تَمَجَّعَ و اِمْتَجَعَ: کھجوریں کھا کر اوپر سے دودھ پینا۔ مَجَّعَ تمجیعًا ضیفَہُ: اپنے مہمان کو کھجور اور دودھ کا بنا ہوا کھانا کھلانا۔ أَمْجَعَ الفصیلَ: اونٹ کے بچے کو برتن سے دودھ پلانا۔ المُجَاعۃ: کھجور اور دودھ سے بنے ہوئے کھانے کا بچا کھچا۔ المجیع: کھجور اور

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دودھ سے بنا ہوا کھانا۔
٢۔ مَجِعَ ـ و مَجُعَ ـ مَجَاعَةً: باہم مخول کرنا۔ بے شرم و بے حیا ہونا۔ مَاجَعَ مُمَاجَعَةً: باہم مخول کرنا۔ ایک دوسرے سے مخول کرنا۔ تَمَاجعا: باہم مخول کرنا۔ المِجع: مخول کرنے والا۔ والمَجْع: جاہل، احمق۔ المُجْعَة: جاہل، احمق...... والمِجعَة: جاہل (عورت)۔ المَجعَة و المِجعَة و المُجَعَة والمَاجعَة: بے حیا مخولی عورت۔ المَجاع و المَجَّاعَة والمُجَّاعَة: بے حیا مخولی مرد۔

مجل: مَجَلَ ـ مَجْلاً و مُجُولاً و مَجِلَ ـ مَجَلاً ت يَدُهُ: ہاتھ میں کام کرنے کی وجہ سے آبلہ پڑنا۔ عوام بقلت کہتے ہیں۔ اَمجَلَ ت يَدُهُ: کے ہاتھ میں آبلہ پڑنا۔ العملُ يدَهُ: کے ہاتھ میں آبلہ ڈالنا۔ مَجَلَ رأسُهُ قيحا و دما: نے سر کا پیپ اور خون سے بھر جانا۔ الماجل (فا): پہاڑ یا وادی کے دامن کا پانی۔ المَجْل (مص): آبلہ۔ المَجْلَة جمع مِجال و مجل (طب): آبلہ عوام اسے بقُوقَة کہتے ہیں۔

○ مَجْلَة جمع مِجال اسم جمع مَجْل: چھالہ، آبلہ۔ مَاجِل جمع مَوَاجِل: حوض، ٹینکی۔ مُمَجْمَج: مبہم، غیر واضح، جلدی جلدی گھسیٹا ہوا، جو پڑھا نہ جا سکے۔

مجن: ١۔ مَجَنَ ـ مُجُوناً الشيءُ: موٹا اور سخت ہونا۔ ـــ مُجُوناً و مُجْناً و مَجَانَةً: مخول کرنا اور بے حیا ہونا صفت مَاجِن جمع مُجّان۔ تَمَجَّنَ: بتکلف مخول کرنا۔ مخول کرنے والے کا سا عمل کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَمَجَّنَ في كلامه: اس نے باتوں میں مخول کیا اور بے حیائی کی۔ تَمَاجَنَ: آپس میں مزاح کرنا۔ المَجّان: بڑا مخولی۔

٢۔ المَجَّان: بہت کافی اور کشادہ۔ کہا جاتا ہے: ماءٌ مَجَّانٌ: بہت پانی۔ مفت۔ عطیہ۔ بلا قیمت۔ کہا جاتا ہے: أخَذَهُ أو فعَلَه مَجَّاناً: اس نے وہ چیز مفت لی یا وہ کام مفت کیا۔ هذا الشيءُ لك مَجَّانٌ: یہ چیز تمہاری ہے اور مفت ہے۔ طَرِيقٌ مُمَجَّنٌ: لمبا راستہ۔

○ مَجَنَ ـ مَجْناً و مُجُوناً و مَجَانَةً: مذاق کرنا، دل لگی کرنا، ہنسی اڑانا، چھیڑنا، فقرہ کسنا، طعن کرنا، مضحکہ اڑانا، چڑانا، چوٹ کرنا۔ ماجَنَه: کی ہنسی اڑانا، پر طنز کرنا، پر چوٹ کرنا، کا مضحکہ اڑانا، کو چڑانا، پر آوازے کسنا، کو طعنے دینا، لعنت ملامت کرنا، سے مذاق کرنا، کی ہنسی اڑانا، پر استہزاء کرنا، کو ہیچ سمجھنا، کو چھیڑنا، سے غیر محتاط مذاق کرنا۔ تَمَجَّنَ: گستاخانہ مذاق کرنا۔ تَمَاجَنَ: ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر ہنسنا، ایک دوسری کی ہنسی اڑانا۔ مَجَانَة: بھانڈپن، مسخراپن، جمع مجانات، شوخی، شرارت، عملی مذاق، خرمستی، غیر مہذب حرکت ہنسی، ٹھٹھا۔ مضحکہ خیز حرکت۔ مَجَّان: گستاخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، جسے روکا نہ گیا ہوا، اٹکھیلیاں کرنے والا۔ آوارہ، مسخرا، بھانڈ، مفت۔ مَجّانا یا بالمَجّان: مفت، بلا قیمت۔ مَجّاني: مفت، بلا قیمت۔ مَجّانِيَّة: بلا معاوضہ کام کرنا۔ بے غرضانہ خدمت، فیس سے استثناء۔ فیس کی معافی۔ مُجُون: بھانڈپن، مسخراپن، بے شرمی، بے حیائی، گستاخی، ڈھٹائی، بے تمیزی۔ مُجُوني: بے حیا طنز کرنے والا، ترشرو۔ مَاجِن جمع مَجّان: گستاخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، شوخ، بے ادب، بدتہذیب، بھانڈ، مسخرا۔ مَاجِن جمع مَوَاجِن: حوض، ٹینکی۔ مَجنيزيوم: میگنیشم: ایک معدنی عنصر، ایک سفید قسم کی مٹی۔

مح: ١۔ مَحَّ ـ مَحًّا و مَحَحًا و مُحُوحًا و مُحُوحَةً و اَمَحَّ الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا۔ ـــ الاثرُ: نشان کا مٹنا۔ ـــت الدارُ: گھر کا بے نشان ہونا۔ الماح و المَحّ: پرانا کپڑا۔

٢۔ المُحّ: خالص چیز۔ ـــ والمُحَّة: انڈے کی زردی۔ المُحاح: بھوک۔ المَحّاح: جھوٹا۔ صرف باتوں سے خوش کرنے والا۔ کام کر کے نہ دینے والا۔ الأمَحّ: موٹا۔

○ مَحّ: بوسیدہ۔ تار تار، پھٹا پرانا، فرسودہ۔ مُحّ: بہترین یا پسندیدہ ترین حصہ۔ مختصر مگر معنی خیز، خلاصہ، لُب، اہم، ماحصل، جوہر، انڈے کی زردی۔

محت: ١۔ مَحَتَ ـ مَحتاً فلاناً: کسی کو بہت غضبناک کرنا۔ کہا جاتا ہے: لأمْحَتَنَّك: میں تمہیں غیظ و غضب سے بھر دوں گا۔

٢۔ مَحُتَ ـ مُحَاتَةً اليومُ: دن کا گرم ہونا۔ المَحْت جمع مُحتَاء و مُحُوت: گرم دن، سخت چیز۔

٣۔ المَحْت جمع مُحتَاء و مُحُوت: عقل مند، ذہین، تیز فہم، خالص۔ کہا جاتا ہے: هُوَ عَرَبِيٌّ مَحْتٌ بَحْتٌ: وہ خالص عرب ہے۔

محج: ١۔ مَحَجَ ـ مَحْجًا الرجُلُ: جلدی کرنا۔ ـــ العودَ او اللحمَ: لکڑی یا گوشت چھیلنا۔ ـــ شيئاً عن شيءٍ: کو سے پونچھنا۔ ـــتِ الريحُ الارضَ: ہوا کا غبار اڑا لیجانا۔

٢۔ مَحَجَ ـ مَحْجًا الجلدَ: چمڑے کو نرم کرنے کے لئے ملنا۔ ـــ الدلوَ: [illegible] میں) ڈول ہلانا۔

٣۔ مَحَجَ ـ مَحْجاً الرجُلُ: جھوٹ بولنا۔ مَاحَجَ مِحَاجًا و مُمَاحَجَةً: سے ٹال مٹول کرنا۔ المَحّاج: جھوٹا۔

محر: المَحارَة: کستورا مچھلی، کستورا مچھلی کا کھپرا، خوردنی سمندری صدفیہ، کرنی، کرنڈی۔

محس: مَحَسَ ـ مَحْسًا الجلدَ: چمڑے کو نرم کرنا اور رنگنا۔ الأمْحَس: ماہر چمڑا رنگنے والا۔

محش: ١۔ مَحَشَ ـ مَحْشًا الجلدَ: کھال پر سے گوشت چھیلنا۔ ...... الطعامَ: بہت کھانا کھانا۔ ـــ السيلُ ما مَرَّ عليه: سیلاب کا ہر اس چیز کو بہا لیجانا جس پر سے اس کا گزر ہو۔ ـــ مَحْشَةً وجهَهُ بالسيف: تلوار مار کر کسی کے چہرے کی کھال چھیل دینا...... و أَمْحَشَ الحرُّ او النارُ الجلدَ: گرمی یا آگ کا کھال جلانا۔ اِمْتَحَشَ: جلنا۔ ـــ فلانٌ غضبًا: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ ـــ القمرُ: چاند کا چھپ جانا۔ ......تْهُ النارُ: کو آگ کا جلانا۔ المُحاش: جلا ہوا۔ المَحاش: آپس میں عہد کرنے کے لئے آگ کے گرد جمع ہونے والے۔ سَنةٌ مَحُوش و مُمْحِشَة: خشک سال۔

٢۔ المَحاش: گھر کا سامان۔

محص: ١۔ مَحَصَ ـ مَحْصًا الظبيُ في عدوه: ہرن کا بہت تیز دوڑنا۔ ـــ المذبوحُ برجله: مذبوح کا تڑپنا۔ ـــ بفلان الارضَ: کو زمین پر پٹکنا۔ ـــ فلانٌ من فلان: سے بھاگ جانا۔ اِنْمَحَصَ فلانٌ من يده: کے ہاتھ سے نکل جانا۔ اِمْتَحَصَ الظبيُ في عدوه: ہرن کا تیز دوڑنا۔

٢۔ مَحَصَ ـ مَحْصًا اللهُ مَابِكَ: اللہ کا تمہاری مصیبت دور کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو ہر عیب سے پاک کرنا۔ ـــ الذهبَ بالنار: آگ سے سونے کو ملاوٹ سے پاک کرنا۔ ـــ الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ ......السِنانَ: بھالے کو صیقل کرنا۔ ـــ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ مَحِصَ ـ مَحَصًا الحبلُ: رسی کا نرم اور ہموار ہونا۔ مَحَّصَ الشيءَ: کو کم کرنا۔ کہا جاتا ہے: مَحَّصَ اللهُ عن فلانٍ ذنوبَه: اللہ تعالیٰ نے اسکے گناہ کم کر دیئے اور اسے ان سے پاک کر دیا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو پٹھے سے صاف کرنا یعنی پٹھے نکال کر صاف کرنا۔ ـــهُ عنه: کو سے دور کرنا اور پاک صاف کرنا۔ ـــ الرجُلَ: کو آزمانا۔ اُمْحِصَ من المرض: مریض کا بیماری سے صحت یاب ہونا۔ ـــتِ الشمسُ: سورج کا گرہن سے نکلنا۔ ـــهُ عنه: کو سے دور کرنا۔ تَمَحَّصَ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الظلامُ: اندھیرے کا دور ہونا۔اِنْمَحَص الورمُ: ورم کا کم ہونا۔ ۔ ت الشمسُ: سورج کا ظاہر ہونا۔ المُحُص من الخیل: مضبوط ساخت کا گھوڑا۔ المَحِص من الحبال وُ الاوتار: نرم رسّی یا تانت۔المَحَّاص: ماحص کا اسم مبالغہ۔برق مَحَّاصٌ: چمکنے والی بجلی۔الأُمحص: ہر جھوٹے سچے کا عذر قبول کرلینے والا۔المَحِیص و المُمَحَّص من الحیل: مضبوط ساخت کا گھوڑا۔ ــــ من الأسِنَة: صیقل شدہ بھالا۔المَمْحُوص من الخیل: مضبوط ساخت کا گھوڑا۔

مَحَصَ - مَحْصًا ہ: کو صاف کرنا، پاک کرنا، کو واضح کرنا۔مَحَّصَ ہ: کو صاف شفاف کرنا، پاک کرنا، واضح کرنا۔ نیز مَحَّصَ ہ: کی تصحیح کرنا، کو ٹھیک کرنا، کو جانچنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ کرنا، کا بغور مشاہدہ کرنا۔أُمْحَصَ: دوبارہ نظر آنا، دوبارہ ظاہر ہونا، دوبارہ آنا، دوبارہ برآمد ہونا، دوبارہ نکلنا، دوبارہ ظہور میں آنا، دوبارہ باہر نکلنا۔تَمَحَّصَ: مندرجہ بالا معانی۔ نیز تَمَحَّصَ، واضح ہونا، پاک ہونا۔اِنْمَحَصَ: واضح ہونا، پاک ہونا۔مَحِیص: روشن، چمکیلی، کوندنے والی (تلوار)۔تَمْحِیص: توضیح، وضاحت، جانچ پڑتال، مکمل امتحان، جائزہ۔

محض: مَحَضَ - مَحْضًا فلانا الودَّ او النصحَ: سے خالص محبت و دوستی کرنا، کی خالص خیر خواہی کرنا۔ــ الرجُلَ: کو خالص دودھ پلانا۔مَحُضَ ۔ مُحُوضَةً نسبُ الرجل و مَحُضَ الرجل فی نسبہ: خالص نسب ہونا یا ہو جانا۔مَحِضَ - مَحَضًا: خالص دودھ پینا۔مَاحَضَ ہُ الودَّ: سے خالص محبت اور دوستی کرنا۔أَمْحَضَ فلانًا الودَّ او الحدیثَ: سے محبت یا گفتار میں سچا ہونا۔ ــ لہُ النصحَ: کی سچی خیر خواہی کرنا۔اِمْتَحَضَ الرجُلُ: خالص دودھ پینا۔المَاحِض: خالص دودھ کا مشتاق۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ مَاحِضٌ: خالص نسب والا۔ المَحْض (مص) جمع مِحَاض من اللبن و نحوہ: خالص اور ملاوٹ کے بغیر دودھ وغیرہ۔ عام طور پر خالص اور صریح۔ کہا جاتا ہے عَرَبِیٌّ مَحْضٌ اور عربیۃ مَحْضًا: خالص نسب کا عرب۔ (مصدر ہونے کی وجہ سے) اس میں مذکر مؤنث اور تثنیہ اور جمع یکساں ہیں۔ اگرچہ تانیث و تثنیہ اور جمع بھی جائز ہے۔ المَحِض: خالص دودھ کا مشتاق۔الأُمْحُوضة: خالص یا مخلصانہ نصیحت۔المَمْحُوض مؤنث مَمْحُوضة: خالص کہا جاتا ہے فِضَّةٌ مَمْحُوضَةٌ: خالص چاندی جس میں کھوٹ نہ ہو۔

مَحَضَ - مَحْضًا ہ: سے کسی بات میں مخلص ہونا، کو محبت پیار وغیرہ دکھانا، پر محبت پیار وغیرہ واضح کرنا۔ مَحُضَ ۔ مُحُوضَةً: خالص نسب والا ہونا، خالص ہونا، بے ملاوٹ ہونا، بے کھوٹ ہونا، کھرا، اصلی اور حقیقی ہونا۔أُمْحَضَ ہ ہ: سے کسی بات میں مخلص ہونا۔تَمَحَّضَ ل: اپنے آپ کو صرف کے لئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، نذر کرنا یا صرف کسی کام میں لگ جانا، کے لئے وقف ہونا۔مَحض: خالص نسب کا خالص، بے ملاوٹ، بے کھوٹ، اصلی، حقیقی، کھرا، بالکل، محض، نرا، سراسر، یکسر، صاف۔مَحْضًا: کھرا، محض، نرا۔بِمَحْضِ إختیارہ: مکمل طور پر از خود، خود بخود آپ سے، آپ ہی آپ۔لِمَحْضِ صالِحِھَا: محض اس کے مفاد میں، صرف اس کی اپنی بھلائی کے لئے۔أُمْحُوضَة: مخلصانہ نصیحت، صلاح، مشورہ، رائے، ہدایت۔

محط: مَحَطَ - مَحْطًا و مَحَّطَ الوترَ: تانت کو برابر کرنے کے لئے سونتنا۔ــ السهمَ: تیر چلانا۔اِمْتَحَطَ السیفَ: تلوار سونتنا۔..... الرمحَ: نیزہ کھینچنا۔ ــــ البعیرُ: اونٹ کا دوڑنا۔عامٌ مَاحِطٌ: کم بارش کا سال۔

محق: مَحَقَ - مَحْقًا الشیءَ: کو باطل کرنا، مٹانا۔ ... اللّٰہُ الشیءَ: کو کا گھٹانا، کو بے برکت کرنا۔ــ فلانًا: کو ہلاک کرنا۔ ..... الحرُّ الشیءَ: گرمی کا کسی چیز کو جلا ڈالنا۔مُحِقَ الرجُلُ: قریب المرگ ہونا۔مَحَّقَ الشیءَ: کو باطل کرنا، مٹانا۔أَمْحَقَ المالُ: مال کا ہلاک و برباد ہونا۔ــ الرجُلُ: کے مال پر تباہی آ پڑنا۔ــــ القمرُ: چاند کا مہینہ کی آخری راتوں میں ہونا۔تَمَحَّقَ و امَّحَقَ: مضمحل ہونا، باطل ہونا، مٹنا۔ إمْتَحَقَ: مضمحل ہونا، باطل ہونا، مٹنا۔ ــــ الحرُّ الشیءَ: گرمی کا کسی چیز کو جلانا۔ ــــ النباتُ: پودے کا خشک ہونا اور گرمی سے جلنا۔ ــــ الرجُلُ: قریب المرگ ہونا۔ــ الشیءُ: چیز کی خیر و برکت جاتی رہنا۔اِنْمَحَقَ: مضمحل ہونا، باطل ہونا، مٹنا۔ ــــ الھلالُ: مہینہ کے آخر میں چاند کا دکھائی نہ دینا۔ المَاحِق فا۔ مَاحِقُ الصیف: موسم گرما کی شدت۔یومٌ ماحِقٌ: سخت گرم دن۔المَحْق (مص): کھجور کے قریب قریب لگے ہوئے پودے۔ المَحَقَة: ہلاکت۔المَحَاق و المُحَاق و المِحَاق: قمری ماہ کا اخیر (آخری تین راتیں)۔ سنانٌ مَحِیقٌ: باریک اور تیز بھالا۔الأَمْحَق: بے برکت تھوڑی چیز۔المَمْحَقة: مَحْق سے مَفْعَلہ کا صیغہ جو کسی چیز کے وجود کی کسی جگہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے التبذیر ممحقةٌ للمال: فضول خرچی مال کے لئے سخت تباہ کن ہے۔

مَحَقَ ۔ مَحْقًا ہ: کو مٹانا، محو کرنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا، چھیل ڈالنا، جڑ سے اکھاڑنا، کا استیصال کرنا، قلع قمع کرنا، کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا۔أَمْحَقَ: چاند کا گھٹنا، نظر نہ آنا، تلف ہونا، فنا ہونا، مر جانا۔ تَمَحَّقَ و انْمَحَقَ و امَّحَقَ نیز امْتَحَقَ: مٹ جانا، مٹنا، تباہ ہونا، برباد ہونا، تلف ہونا، فنا ہونا، نیست و نابود ہونا۔مَحْق: مٹانا، محو کرنا، نام و نشان مٹانا، قلع قمع، استیصال، بیخ کنی، بربادی، تباہی، پائمالی، فنا، انہدام، ہلاکت کالعدم ہونا۔مَحَاق و مُحَاق و مِحَاق: چاند کا گھٹنا۔

محك: مَحَكَ ۔ مَحْكًا و مَحِكَ ۔ مَحَكًا و تَمَحَّكَ الرجلُ: باتوں میں جھگڑنا، اور بھاؤ کرنے میں جھگڑا کرنا۔ صفت مَحِكٌ و ماحِكٌ و مَحْکان۔ مَاحَكَ مُمَاحَكَةً فلانًا: سے جھگڑنا۔أَمْحَكَ الرجُلُ: باتوں میں جھگڑنا۔ بھاؤ کرنے میں جھگڑا کرنا۔ ــــ الخصُومُ فلانًا: کو دشمنوں کا غضبناک کرنا۔تَمَاحَكَ الخصمان: آپس میں جھگڑنا۔ المُمْتَحِك: جھگڑالو۔ بدخلق۔

مَحَكَ ۔ مَحْكًا و مَحِكَ ۔ مَحَكًا: جھگڑالو ہونا، کٹ حجتی ہونا، حجتی، تکراری یا الٹی کھوپڑی کا ہونا۔ جھگڑنا، تو تو میں میں کرنا، شور مچا کر جھگڑنا، معمولی باتوں پر الجھنا، ہٹ دھرمی سے جھگڑنا۔مَاحَكَ ہ: سے جھگڑا کرنا، سے تو تو میں میں ہونا، سے بھڑنا، بحثا بحثی کرنا۔ أَمْحَكَ و تَمَحَّكَ: بمعنی مَحَكَ۔ مَحِك: جھگڑالو، کٹ حجتی، مباحثہ جو، معمولی معمولی باتوں پر الجھنے والا۔ جھگڑالو شخص، معمولی باتوں پر الجھنے والا شخص، تو تو میں میں کرنے والا۔مَاحِك و مُمَاحِك بمعنی مَحِك۔

محل: امْحَلَ ۔ و مَحِلَ ۔ مَحْلًا و مُحُولًا و مَحُلَ ۔ مَحَالَةً المکانُ: جگہ کا قحط زدہ ہونا۔ صفت ماحل۔ امْحَلَ المکانُ: جگہ کا قحط زدہ ہونا۔ صفت مُمْحِل۔ الارضُ مُمْحِلٌ و مُمْحِلَةٌ: یہ قحط زدہ زمین ہے۔ــ المطرُ: بارش کا رکنا۔ــــ القومُ: قوم کا قحط زدہ ہونا۔ صفت مُمْحِلُون ــــ اللّٰہُ الارضَ: اللہ کا زمین کو قحط زدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ارضٌ مَاحِلٌ: قحط زدہ زمین۔المَحْل جمع مُحُول و أَمْحَال: شدت۔ قحط، سخت بھوک، بارش کی بندش،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

زمین کی خشکی، کہا جاتا ہے: رَجُلٌ مَحْلٌ: بے فیض شخص ۔ارضٌ مَحْلٌ و مَحْلَةٌ و مَحُولٌ و مَحُولة جمع ارضون مَحْلٌ و مُحُولٌ: قحط زدہ زمین۔ ارضٌ مُمْحِلٌ و مُمْحِلة: قحط زدہ زمین ۔ارض مِمْحَال: قحط زدہ میں۔

۲۔مَحَلَ - و مَحِلَ - و مَحُلَ - مَحْلاً و مِحَالاً به الی الامیر: امیر سے کی چغلی کھانا۔صفت مَاحِلٌ و مَحُولٌ و مَحَّال ــ بصاحبه: پر بہتان لگانا، کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس نے نہیں کہی۔ مَحَلَ فلاناً: کو قوی کرنا۔آپ کہتے ہیں: مَحَلَنِی یا فلان: اے فلان شخص مجھے قوی کر۔مَاحَلَ۔ مِحالاً و مُمَاحَلَةً: سے مکر کرنا، قوت آزمائی کیلئے آپس میں زور کرنا۔ سے دشمنی کرنا، کو ہٹانا، سے جھگڑا کرنا۔ تَمَحَّلَ الشیءَ و له: کو حیلے سے طلب کرنا ـــ لفلانٍ حقّهٗ: کا حق حاصل کرنے کی تجویز کرنا۔ تَمَاحَلَ القومُ: آپس میں حیلہ بازی کرنا۔ الماحِل (فا): جھگڑا کرنے والا حریف۔کہا جاتا ہے رَأیتُهٗ ماحِلاً: میں نے اس کا رنگ بدلا ہوا دیکھا۔المَحْل جمع مُحُول و اَمْحَال: دھوکہ، مکر۔المَحِل: دھتکارا ہوا یہاں تک کہ تھک جائے۔کہا جاتا ہے دَجَلٌ مَحِلٌ: مکار، حیلہ باز۔المِحَال: مکر، فریب، جھگڑا، عذاب، مصیبت، سزا، سختی، طاقت، ہلاکت، ہلاک کرنا، حیلوں بہانوں سے کسی کام کی آرزومندی، تدبیر، دشمنی۔ المَحَالَة جمع مَحَال۔ مَحَال کی جمع مُحُل: کہا جاتا ہے: لا مَحَالة: ضروری، لابد، بیشک۔المَحَّال: مکار، فریبی، دھوکے باز، شیطان۔

۳۔مَحَّلَ الشیءَ: کو لمبا کرنا۔تَمَاحَلَتْ بهم الدارُ: کے گھر دور ہونا۔المُتَماحِل: لمبا اور بے ڈھنگا آدمی یا اونٹ۔رجُلٌ مُتَماحِلٌ: بہت لمبا مرد۔ رأیتُهٗ مُتَماحِلاً: میں نے اسے بدلے ہوئے جسم میں دیکھا۔فَلاةٌ مُتَماحِلة: وسیع ریگستان۔فِتْنَةٌ متماحِلةٌ: طویل اور نہ ختم ہونے والا فتنہ۔

۴۔تَمَحَّلَ الدراهِمَ: نقد درہم لینا۔

۵۔المَحْل جمع مُحُول و اَمْحَال: گرد و غبار۔المَحَال: بڑی چرخی۔ایک قسم کا زیور۔المَحَالة جمع مَحَال جس کی جمع مُحُل ہے بڑی چرخی، اونٹ وغیرہ کی پیٹھ کا مہرہ۔ وہ لکڑی کا تختہ جس پر کھڑے ہو کر کھگل کریں۔المِمْحَلَة: دودھ کا مشکیزہ۔

⊙مَحَلَ - ومَحِلَ - مَحْلاً و مُحُولاً و مَحُلَ ۔ مَحَالَةً: زمین کا بنجر ہونا، سال کا بے برگ و بار ہونا۔ مَحَلَ و سَحِلَ ۔ و مَحُلَ ۔ مَحْلا و مِحالاً ب: کے خلاف سازش کرنا، ساز باز کرنا۔اَمْحَلَ: بنجر ہونا، خشک ہونا۔ ہ (زمین کو) بنجر کرنا۔بارش نہ ہونا، بارش کا رکنا، بارش میں تاخیر ہونا۔تَمَحَّلَ ہ: فریب یا ساز باز سے کوئی چیز حاصل کرنے کی خواہش کرنا، کے لئے فریب سے جدوجہد کرنا، بہانہ ڈھونڈنا ـــ لـ: کا اشتہار دینا، کو مشتہر کرنا (عیاری سے یا ناجائز ذرائع سے)۔تَمَحَّلَ العذرَ: بہانہ کرنا، عذر کرنا، بہانہ بنانا۔مَحْل: بنجر پن، بانجھ پن، عدم زرخیزی، خشکی، سوکھا پن، قحط سالی، خشک سالی، امساک باران کال، کمیابی، کمی، تنگی، قحط، عیاری، چالاکی، ہوشیاری، حکمت، مکاری، استادی، حیلہ گری، دروغ بیانی، دھوکہ، دغا، مکر، فریب۔مَحَالَة جمع مَحَال: چرخی، گھرنی۔مِحَال: عیاری، مکاری، ہوشیاری، چالاکی، استادی، فریب، مکر۔مَاحِل: بنجر، بانجھ، کلر، شور، عریان، روکھا، بے رنگ، سنسان، ویران۔مُمْحِل: بنجر، بانجھ، کلر، شور۔

محن: ۱۔مَحَنَ - مَحْنَاہ عشرین سوطاً: کو بیس کوڑے مارنا۔ ـــ الناقةَ: اونٹنی کو چلا کر تھکانا ـــ فلاناً: کو آزمانا، پرکھنا ـــ الفضّةَ: چاندی کو تپا کر کھوٹ سے پاک کرنا۔اسم المِحْنَة ـــ البئرَ: کنویں کی مٹی اور کیچڑ نکالنا ـــ الثوبَ: کپڑا پہن کر پرانا کرنا ـــ و مَحَّنَ الادیمَ: چمڑے کو نرم کرنا، لمبا کرنا۔اِمْتَحَنَ الشیءَ: کو آزمانا۔اسی سے ہے امتحانُ الطلبة: طالب علموں کا امتحان لینا ـــ القولَ: پر غور کرنا، کو سوچنا ـــ الفضّةَ: چاندی کو تپا کر صاف کرنا۔المَحْن (مص): ہر نرم چیز۔لگا تار چلنا یا کام کرنا۔کہا جاتا ہے: کان فی مَحْنٍ: وہ ثابت قدم ہے۔لگا تار کام کرنے والا ہے۔المِحْنة جمع مِحَن: آزمائش۔

۲۔مَحَنَ - مَحْناً فلاناً شیئاً: کو کوئی چیز دینا۔ المَحْن: عطیہ۔بخشش۔

⊙مَحَنَ - مَحْناً و اِمْتَحَنَ ہ/ہ: کو آزمانا، کا امتحان لینا، کو جانچنا ـــ ہُ: کی آزمائش کرنا، کا امتحان کرنا، امتحان لینا۔مِحْنَة جمع مِحَن: سخت آزمائش، کڑی آزمائش، سخت امتحان، مصیبت، رنج، دکھ، رنج والم، قہر، بپتا، ایذا، سختی، مشکل، تکلیف، بدنصیبی، بدبختی۔امتحان جمع امتحانات: ٹسٹ، تجربہ، امتحان۔امتحان الدخول: داخلہ کا امتحان۔امتحان نہائی: آخری امتحان۔ مُمْتَحِن: امتحان لینے والا، ٹسٹ لینے والا۔مُمْتَحَن: امتحان لیا ہوا، آزمایا ہوا، ٹسٹ لیا ہوا، جس کا امتحان لیا [illegible]

marfat.com

محو: مَحَا یَمْحُو و یَمْحَی مَحْوًا الشیءَ: کو مٹانا، کا نام و نشان مٹا دینا۔صفت مَمْحِیّ و مَمْحُوّ کہا جاتا ہے: محت الریحُ السحابَ و الصبحُ اللیلَ: ہوا بادل کو اڑا لے گئی اور صبح رات کو لے گئی۔ و اِمَّحَی و اِمْتَحَی الشیءُ: مٹنا، نام و نشان مٹنا۔ (امتحی امَّحی کے معنی میں کمزور لغت ہے)۔ مَحَّی الشیءَ: کو مٹانا، دور کرنا۔تَمَحَّی تَمَحِّیاً من القوم: قوم سے معافی کی درخواست کرنا۔ المَحْو (مص): چاند کا سیاہ داغ۔المَحْوَة: اسم مرہ، عار، بارش، کہا جاتا ہے۔ اصابت الارضَ مَحْوَةٌ اوهَبَّتْ مَحْوَةٌ۔ شمالی ہوا چلی کیونکہ وہ بادل کو اڑا لے جاتی ہے۔المِمْحَاة: پونچھنے کا چیتھڑا، تولیہ، ربڑ، عوام اسے مِحَّایَة کہتے ہیں۔

⊙محا ۔ مَحْوًا ہ: کو دھو ڈالنا، دور کرنا، مٹا ڈالنا، حرف غلط کی طرح مٹانا، محو کرنا، چھیل ڈالنا، کاٹنا، قلم زن کرنا، کا نام و نشان مٹانا، کو جڑ سے اکھاڑنا، کا استیصال کرنا، قلع قمع کرنا، بجھانا، ختم کرنا، خارج کرنا، منسوخ کرنا، نیست و نابود کرنا۔لا یُمْحَی اَمِتْ، مَحَّی ہ: کو دھو ڈالنا، مٹا ڈالنا، حرف غلط کی طرح مٹانا، کو بجھانا، ختم کرنا، کا قلع قمع کرنا، جڑ سے اکھاڑنا، جڑ بنیاد سے اکھیڑنا۔تَمَحَّی و اِنْمَحَی و اِمَّحَی و اِمْتَحَی: مٹنا، محو ہونا، نام و نشان مٹنا، ختم ہونا، حرف غلط کی طرح مٹنا۔قلع قمع ہونا، دفعتہً غائب ہو جانا، فضا میں تحلیل ہو جانا۔نظر سے اوجھل ہونا، کھو جانا، کافور ہو جانا۔مِمْحَاة و مَحَّایَة: جس شے سے مٹایا جائے، ربڑ (eraser)۔ماحِیَة: ربڑ، جس شئے سے مٹایا جائے۔

محی: مَحَی یَمْحَی و یَمْحِی مَحْیاً: کو مٹانا۔

مخج: مَخَجَ ۔ مَخْجاً و تَمَاخَجَ الدلوَ و بالدلو: پانی بھرنے کے لئے ڈول کو ہلانا۔تَمَخَّجَ الدلوَ و بالدلو: پانی بھرنے کے لئے ڈول کو ہلانا ـــ الماءَ: پانی کو ہلانا۔

مخ: مَخَّخَ و تَمَخَّخَ و اِمْتَخَّ العظمَ: ہڈی سے گودا نکالنا۔اَمَخَّ العظمُ: ہڈی کا گودے دار ہونا ـــ العودُ: لکڑی کا تر ہونا ـــ الزرعُ: کھیتی کا پر مغز ہونا ـــ ت الشاةُ: بکری کا موٹی ہونا۔المُخّ جمع مِخَاخ و مِخَخَة: گودا، بھیجا، دماغ، آنکھ کی چربی، نرم، خالص، کہا جاتا ہے: لا اری لامرك مُخّاً: مجھے تمہارے کام میں بھلائی نظر نہیں آتی ـــ و المُخَّة: گودے کا ٹکڑا۔کہا جاتا ہے هولاء مُخُّ القوم و مُخَّةُ القوم: یہ قوم کے برگزیدہ ہیں۔المُخَاخَة:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہڈی کا وہ گودا جو چوسنے سے منہ میں آجائے۔
المَخِيخ: گودے دار ہڈی۔شاۃٌ مَخِيخَةٌ جمع
مَخَائِخ: گودے والی بکری۔اِبلٌ مَخَائِخ: بہترین
اونٹ۔کہا جاتا ہے لَهُ لِسانٌ مُمِخٌّ وہ فصیح اللسان
ہے۔
⊙ مُخ جمع مِخاخ و مِخَخَة: دماغ، گودہ، مغز، ہڈیوں کا
مغز، حرام مغز، گری، ست، روح، جوہر، پاک ترین
اور سب سے بڑھ کر پسندیدہ حصہ۔مُخِّي: دماغ کا
دماغی، مغز کے متعلق۔
الشحا: موچا (جنوب مغربی یمن کی بندرگاہ)
مخر: ا۔مَخَرَ ۔ مَخْراً و مُخُوراً السفينةُ:
کشتی کا پانی کو آواز کے ساتھ چیرتے ہوئے چلنا۔۔
الارض: زمین کو زراعت کیلئے پھاڑنا۔کو پانی دینا۔
۔۔السابحُ: تیرنے والے کا ہاتھوں سے پانی کو چیرنا۔
۔۔الذئبُ الشاۃَ: بھیڑیے کا بکری کے پیٹ کو
پھاڑنا۔۔مَخَرَ البیتَ: گھر کا عمدہ سامان
لینا۔تَمَخَّرَ و اِسْتَمْخَرَ الریحَ: ہوا کی طرف
ناک کرنا۔ہوا کی سمت میں پیٹھ کرنا۔اِمْتَخَرَ الریحَ:
ہوا کی طرف ناک کرنا، ہوا کی سمت پیٹھ کرنا۔۔الشیءَ:
کو اختیار کرنا۔۔القومَ: قوم کے بہترین لوگوں کا
انتخاب کرنا۔۔العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔المَخْر
(مص)۔المَخْرَةُ: مخر کا اسم مرہ۔منہ سے نکلنے والی
بدبو۔۔السِخْرَۃ و المُخْرَة: منتخب شی، پسندیدہ
چیز۔المَاخِرَة جمع مَوَاخِر۔ماخر: کا مؤنث:
کشتی۔المَاخُور جمع مَوَاخِر و مَوَاخِير: بدکاروں
کی مجلس۔آوارگی کا اڈہ۔بدکاری کے اڈے کا دلال۔
۲۔بناتُ مَخْرٍ: ہلکے سفید بادل۔
۳۔مَخْرَق مَخْرَقَةً: جھوٹ بولنا، جھوٹ تراشنا۔
⊙ مَخَرَ ۔ مَخْراً و مُخُوراً: ہل چلانا۔۔ھ: کو پھاڑنا،
دو ٹکڑے کرنا، کشتی کا سمندر سے گزرنا۔مَاخِر و
مَاخِرَة جمع مَوَاخِر: کشتی، جہاز۔ماخور جمع
مَوَاخِير: طوائف کا گھر، رنڈی کا مکان، چکلا۔
⊙ مَخْرَق: شیخی بگھارنا، جھوٹ موٹ کہنا، دھوکا دینا، بے
ایمانی کرنا، دغا بازی کرنا۔
مخض: مَخَضَ ۔ مَخْضاً اللبنَ: دودھ بلونا۔لبنٌ
مَخِيضٌ و مَمْخُوض: بلویا ہوا دودھ۔۔الشیءَ:
کو زور سے ہلانا۔۔بالدلو: پانی بھرنے کے لئے
ڈول کو کنویں میں ہلانا۔۔البئرَ بالدلو: کنویں سے
اکثر ڈول ڈال اور ہلا کر پانی نکالنا۔۔الرأیَ: رائے
پر خوب غور کرنا۔
مَخِضَ ۔ مَخاضاً و مِخاضاً و مُخِضَ و مُخِّضَ ت
الحاملُ: حاملہ کا دردزہ میں مبتلا ہونا صفت مَاخِض
جمع مُخَّض و مَوَاخِض اُمْخِضَ اللبنُ: دودھ
کے بلوے جانے کا وقت قریب آنا۔۔الرجلُ: بچے
جننے کے قریب اونٹنیوں والا ہونا۔تَمَخَّضَ اللبنُ:
دودھ کا مکھن نکلا ہوا ہونا، دودھ بلونے کے برتن میں
ہلنا۔۔الولدُ: بچہ کا ماں کے پیٹ میں پھرنا۔۔
الحامِلُ: حاملہ کا جننے کا وقت قریب آنا اور دردزہ ہونا۔
۔۔المساءُ: آسمان کا برسنے کے قریب ہونا۔۔
الدهرُ بالفتنة: زمانہ نے فساد پیدا کر دیئے۔
تَمَخَّضَتِ الليلةُ عن صباحِ سوءٍ: رات بری صبح
لائی۔اِمْتَخَضَ اللبنُ: دودھ کا مکھن نکلا ہوا ہونا،
مکھن دودھ کا مکھن نکالنے کے برتن میں ہلنا۔۔
الولدُ: بچے کا پیٹ میں ہلنا۔اِسْتَمْخَضَ اللبنُ:
دودھ کے جمنے میں دیر ہونا۔۔ت الحاملُ بولدها:
حاملہ کا دردزہ میں مبتلا ہونا۔المَخَاض: دردزہ۔
الاِمْخَاض: دودھ جب تک بلونی میں رہے۔المِمْخَض
و المِمْخَضَة جمع مَمَاخِض: مشکیزہ۔دودھ بلونے
کا برتن بلونی۔
⊙ مَخَضَ ۔ مَخْضاً ھ: دودھ بلونا، دودھ سے مکھن
نکالنا، ۔۔ھ: کسی چیز کو زور سے ہلانا۔مَخِضَ ۔
مَخاضاً و مِخاضاً: جننے ہی والی ہونا، دردزہ میں
مبتلا ہونا۔تَمَخَّضَ بمعنی مَخِضَ نیز تَمَخَّضَ عن:
پھل دینا، کو وجود میں لانا۔بنانا، تخلیق کرنا، کا باعث
ہونا، کو کرنا، عمل میں لانا۔تَمَخَّضَ: دودھ کا بلویا جانا،
دودھ سے مکھن نکلنا۔مَخَاض: دردزہ۔مخیض:
مکھن نکلی لسی، چھاچھ۔۔مَخَاضَة و مِمْخَضَة جمع
مَمَاخِض: چاٹی، مٹکی۔
مخط: ا۔مَخَطَ ۔ مَخْطاً الشیءَ: کو کھینچ کر لمبا
کرنا۔۔السیفَ: تلوار سونتنا۔۔ہُ بیدہ: کو ہاتھ سے
مارنا۔۔المُخاطَ: رینٹ صاف کرنا۔۔الصبیَّ:
بچہ کی رینٹ صاف کرنا۔۔غرسَ فلانٍ: کے پودے
کی پرورش کرنا اور اس کی نشوونما پرداخت کرنا۔الولدُ:
باپ کے مشابہ ہونا۔۔مَخْطاً و مُخُوطاً السهمُ:
تیر کا پار ہونا صفت مَاخِط مَخَطَ الولدَ: بچے کی
رینٹ صاف کرنا اِمْخَطَ السهمَ: تیر کو پار کرنا۔
تَمَخَّطَ: رینٹ صاف کرنا اِمْتَخَطَ: رینٹ
صاف کرنا۔۔الشیءَ: کو چھین لینا۔۔السیفَ:
تلوار سونتنا۔المَخط (مص): راکھ۔المُخاط جمع
اَمْخِطَة: رینٹ۔ناک کی ریزش مُخاط
الشیطان: دوپہر کے وقت مکڑی کے جالے کی طرح
اوپر سے نیچے آتی ہوئی دکھائی دینے والی چیز۔اس کو
مُخاط الشمس اور لعابُ الشمس بھی کہتے
ہیں۔المُخاطِي: مخاط کی صفت والا۔المَخْطَة:
ایک دفعہ ناک جھاڑنا، ایک بار۔
۲۔مَخَطَ ۔ مَخْطاً الرجلُ في الارض: زمین میں تیز
چلنا۔۔الجملُ به: اونٹ کا کسی کو جلدی لیجانا۔
۳۔تَمَخَّطَ الرجلُ: چلنے میں لڑکھڑانا۔
۴۔المُخْط: چھوٹا کپڑا۔المَخِط جمع مُخاط: فیاض
سردار۔
⊙ مَخَطَ ۔ مَخْطاً و مُخُوطاً و تَمَخَّطَ: ناک سنکنا
یا صاف کرنا۔مُخاط: ناک کا لیس دار مادہ۔ناک کی
ریزش، ناک (بمعنی ناک کا لیس دار مادہ)۔مُخاط
الشمس و مُخاط الشيطان: شیطان کی ڈور، جالا
مخل: المُخل جمع مُخَال و مُخُول: سبل، گدالا، بیرم
(lever)۔پتھر اٹھانے یا توڑنے کا آلہ۔
مخم: مَخْمَخَ ہُ: کا گودا نکالنا۔مغز نکالنا۔
⊙ مَخْمَضَ: منہ کھنگالنا۔
مخن: ا۔مَخَنَ ۔ مَخْناً: رونا۔۔البئرَ: کنویں سے
پانی نکالنا۔۔العودَ: لکڑی چھیلنا۔
۲۔مَخُنَ ۔ مَخْناً و مُخُوناً: لمبا ہونا صفت مَخْنٌ و
مَخِنٌ م مَخْنَة و مَخِنَة۔المَخْنُ: لمبا تڑنگا
آدمی۔المِخنة: مِخَنّ کا مونث۔لمبی تڑنگی عورت۔
۳۔المِخنة: گھر کا صحن۔
مخی: مَخَي الرجلُ عن الامر: کو معاملہ سے ہٹانا،
دور کرنا۔اُمْخِي اِمْخاءً ا و اِمْتَخَى اليه: سے عذر
کرنا۔۔منه: سے بری ہونا، بیزار ہونا۔تَمَخَّي
اليه: سے عذر کرنا، معذرت کرنا۔۔منه: سے بری
ہونا، بیزار ہونا۔۔العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔
مدد: مَدَّ ۔ مَدّاً الشيءَ و بالشيءِ: کو پھیلانا، کھینچنا۔
۔۔الحرفَ: حرف کو کھینچ کر پڑھنا۔۔الارضَ:
زمین میں دوسری جگہ کی مٹی ڈالنا، یا کھاد ڈالنا۔۔
الابلَ: اونٹوں کو دیر تک پانی پلانا۔۔الرجلَ: کو
مہلت دینا، کی فریادرسی کرنا اور مدد کرنا۔۔الجندَ:
فوج کو کمک پہنچانا۔۔الدواةَ: دوات میں پانی اور
روشنائی بڑھانا، دوات میں روشنائی ڈالنا، قلم کو روشنائی
مہیا کرنا۔من الدواۃ: دوات سے لکھنے کے لئے قلم کے
ذریعے روشنائی لینا۔۔البعیرَ: اونٹ کو جو یا تل یا آٹا
ملا ہوا پانی پلانا۔۔اللهُ عمرهُ: اللہ کا کسی کی عمر دراز
کرنا۔۔النهارُ: دن کا چڑھنا۔۔النهرُ
و البحرُ: دریا یا سمندر کا چڑھنا (لازم ومتعدی)۔کہا
جاتا ہے قَلّ ماءُ رَكِيَّتِنا فمدَّتها رَكِيَّةٌ اخرى:
کنویں کا پانی کم ہوگیا تو دوسرے کنویں نے اس کو بڑھا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دیا۔ هذا الوادی یَمُدُّ فی وادی کذا: یہ نالہ
دوسرے نالے کے پانی کو بڑھاتا ہے۔ مَدَّ نظرَہُ
اِلیہ: کی طرف نگاہیں موڑنا، پراچٹتی ہوئی نظر ڈالنا۔
السراجَ بالسلیط: چراغ میں تیل ڈالنا۔
فی السیر: گزرنا۔ ـــــہُ فی غیِّہ: کی
گمراہی میں زیادتی کرنا۔ مَدَّدَ الشیءَ: کو پھیلانا۔
مادَّ مِدادا و مُمادَّةً ہُ: کو ٹال مٹول کرنا۔ بڑھانا
ہُ الثوبَ: ایک دوسرے کے کپڑے کو کھینچنا۔
اَمَدَّ النهارُ: دن کا چڑھ آنا۔ ـــــ الجرحُ: زخم میں
پیپ پڑنا۔ ـــــ الرجُل: کو مہلت دینا، کی فریادرسی کرنا،
کی مددواعانت کرنا۔ الجند: لشکر کو کمک پہنچانا
الدواة: دوات میں روشنائی یا پانی ڈالنا۔ ـــــ
الکاتب: کاتب کے قلم کو ڈوبا دینا۔ ـــــ اَجَلَہُ: کی
مدت دراز کرنا، مؤخر کرنا۔ ہُ اللّٰہُ فی الخیر: کی
بھلائی یا نیکی زیادہ کرنا۔ فلانا بالمال: کو مال
دینا، فی مشیتہ: چال میں مٹکنا، نازو انداز سے
چلنا۔ ـــــ ہُ فی غیِّہ: کی گمراہی میں زیادتی کرنا، کی
گمراہی کو بڑھانا۔ مَدَّدَ الشیْ: کو پھیلانا۔ مادَّ
مِدَادا و مُمادَّةً ہُ: کو کھینچنا، ٹال مٹول کرنا۔ ـــــ ہُ
الثوبَ: ایک دوسرے کے کپڑے کو کھینچنا۔ اَمَدَّ
النهارُ: دن کا چڑھنا، بلند ہونا۔ ـــــ الجرحُ: زخم
میں پیپ ہونا۔ ـــــ الرجُل: کو مہلت دینا، کی
اعانت کرنا، فریادرسی کرنا۔ ـــــ الجندَ: فوج کی مدد
کرنا۔ ـــــ الدواة: میں روشنائی ڈالنا، روشنائی یا پانی
زیادہ کرنا۔ ـــــ الکاتبَ: کو قلم کا ڈوبا دینا۔ ـــــ
اَجَلَہ: کو طویل کرنا، مؤخر کرنا۔ ہُ اللّٰہُ فی الخیر: کو
خیر میں زیادہ کرنا۔ فلانا بمالٍ: کو مال دینا۔ ـــــ
فی مشیتہ: نازو انداز سے چلنا۔ ـــــ ہ فی غیِّہِ:
کی گمراہی میں زیادتی کرنا۔ تَمَدَّدَ: پھیلنا، انگڑائی
لینا۔ تَمَدَّدوا الشیءَ بینهم: چیزوں کو آپس میں
پھیلانا۔ تَمَادَّا الثوبَ: مل کر کپڑا کھینچنا۔ اِمتَدَّ:
پھیلنا۔ انگڑائی لینا۔ فی مشیتہ: مٹک مٹک کر
چلنا۔ نازو انداز سے چلنا۔ ـــــ النهارُ: دن کا آدھا
ہونا۔ ـــــ بهم السیرُ: کا سفر دراز ہونا۔ ـــــ الی
الشیء: کو دیکھنا۔ اِستَمَدَّ من الدواة: دوات
سے روشنائی لینا۔ ـــــ القومُ الامیرَ علی العدو: قوم
کا امیر سے دشمن کے خلاف مدد مانگنا۔ المادَّة جمع
مَوَاد و مادَّات: مادکا مؤنث: جس سے کسی چیز کی
ترکیب ہو، جس پر وہ مبنی ہو۔ مادہ المادَّة الاولی:
پہلا مادہ جس سے کوئی چیز بالقوۃ حاصل ہوتی ہے۔
مَوادُ اللغة: الفاظ لغت۔ موادُ العِلم: علمی

مباحث۔ المادِّی: مادہ کی طرف منسوب۔ مادہ
پرست۔ المادِّیَة: مادہ پرستی۔ المَدّ (مص): فاصلہ،
وسعت، کہا جاتا ہے بینی و بینه قدرُ مَدِّ البصر:
میرے اور اس کے درمیان نظر کی وسعت جتنا فاصلہ
ہے۔ حرف مدّ: جیسے آ، الف پر کی علامت۔ دن کا
چڑھنا۔ کہا جاتا ہے اِتیتهُ مدَّ النهار و مدَّ
الضحی: میں اس کے پاس دن چڑھے آیا۔ مدُّ
البحر: سمندر کے پانی کا چڑھاؤ اور خشکی تک پھیل
جانا۔ اس کے مقابل جزر کا لفظ ہے۔...... جمع مُدُود:
سیلاب۔ المُدّ جمع اَمْدَاد و مِداد و مِدَدَہ: ایک
پیمانہ جو ۱۸ فرنگی لیٹروں کے برابر ہے۔ المَدَّة: مدّ کا
اسم مرۃ۔ قلم کا ایک ڈوب۔ صرف مد (~)۔ المُدَّة
جمع مُدَد: ایک مرتبہ قلم سے لی ہوئی سیاہی۔ عرصہ۔
زمانہ کا ایک حصہ کم ہو یا زیادہ۔ زمان و مکان کی غایت
وانتہاء کہا جاتا ہے لهذه الامة و الارض مُدَّة: اس
امت اور زمین کی ایک انتہاء ہے۔ المِدَّة: نوع، قسم،
پیپ۔ المَدَد: امداد، فریادرسی، کہا جاتا ہے اَمْدَدتُه
بمَدَدٍ: میں نے مدد سے اس کو قوت دی اور اس کی
اعانت کی۔ المِداد: سیاہی، روشنائی، چراغ کا تیل،
کھاد، مثال و طریقہ۔ آپ کہتے ہیں: هم علی
مِدادٍ واحدٍ: وہ ایک ہی طریقہ پر ہیں۔ سبحانَ
اللّٰه مِدادَ السمٰوات: اللہ تعالیٰ آسمانوں کے شمار
اور کثرت سے بہت بلند ہے۔ المَدَّاد: فاؤنٹین
پین۔ المِدَّان: کھاری پانی۔ المدِید: چارہ۔ علم
عروض کی ایک بحر کا نام۔ جمع مُدُد۔ مونث مَدِیدَة:
کھنچا ہوا، لمبا۔ کہا جاتا ہے قدٌّ مدید: لمبا قد۔ فلانٌ
مدید القامة: فلان طویل القامت ہے۔ قَدَّة
مَدیدة: طویل فیتہ، لمبی پٹی۔ المُدَیْدَة: تھوڑی
مدت، مدت کی تصغیر۔ الاَمِلَّة: تانا۔ الاِمِدَّان: کھارا
پانی۔ الاُمْدُود: عادت۔ المَمَدّ: مصدر میمی۔ چیز
کے کھینچنے کی جگہ۔ المُمتَدّ: علم عروض ایک بحر کا نام۔
المَمْدُود (مفع) علم صرف میں ہر وہ اسم معرب
جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ
جیسے صحراء۔ مال مَمْدُود: بہت مال۔
۲۔ المَدَّان والاِمِدَّان: نمکین یا کھارا پانی۔ بہت زیادہ
کھارا پانی۔
مَدَّ ـ مَدًّا ہ: کو پھیلانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا،
کشادہ کرنا، وسعت دینا، سارس کی طرح گردن آگے
کو کرنا، میں دیر کرنا، کو ملتوی کرنا، التوا میں ڈالنا، کھینچنا۔
ترتیب دینا، کا نقشہ ذہن میں تیار کرنا، راستہ یا پائپ
لائن بچھانا۔ (جال) پھیلانا، کو لمبا کرنا، کھینچنا، کو طول

دینا، مہلت دینا۔ ـــــ: (سیلاب، دریا) کا چڑھنا۔ ـــــ ہ
کی مدد کرنا، کو امداد دینا۔ ـــــ ہ ب: کی سے تائید کرنا، کو
کچھ مہیا کرنا، کو کچھ بہم پہنچانا، کو کچھ سپلائی کرنا۔ ـــــ ہ:
لشکر کو کمک پہنچانا۔ ـــــ ہ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ مدّ
عمرَہُ: اللہ کا کسی کی عمر دراز کرنا۔ مدَّا البصرَ اِلی:
کی طرف آنکھیں موڑنا، پر سرسری نظر ڈالنا۔ مدّ جذرا
فی الارض: درخت کا زمین میں جڑ پکڑنا۔ مد
الحبالةَ لہ: کے لئے جال بچھانا۔ کے لئے پھندا
لگانا۔ مدّ رجلَه بِقدرِ کساءِ ہ: چادر دیکھ کر پاؤں
پھیلانا۔ مدر جلیه بقدرِ لحافه: چادر دیکھ کر
پاؤں پھیلانا۔ مدّ سَمْعَہُ: چوکنا ہونا، کان کھڑے
کرنا۔ مدّ المائدةَ: دسترخوان بچھانا۔ مدّ فی
المشی: ڈگ بھرنا۔ مدّ المواسیرَ: پائپ بچھانا۔
مدّ الیه یدہ: کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ مَدَّدَ ہ: بمعنی
مدّ یعنی کو پھیلانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا، کشادہ
کرنا، کو وسعت دینا۔ ـــــ: زخم کا پیپ خارج کرنا، میں
پیپ پڑنا، زخم خراب ہو جانا، ناسور بن جانا۔ مَادَّی:
تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، ملتوی کرنا، ڈھیل کرنا، معرض
تعویق میں ڈالنا۔ ـــــ ہ: کو روز بروز کوئی عذر کر کے ٹال
جانا۔ اَمَدَّہ: کی مدد کرنا، کو مدد دینا، کی اعانت کرنا۔ ـــــ ہ
ب: کی سے تائید کرنا، حمایت کرنا، ہمت بڑھانا، کی
کفالت کرنا، کا کفیل ہونا، کا سہارا ہونا۔ ـــــ ہ/ ہ ب: کو
کچھ مہیا کرنا، کو کچھ بہم پہنچانا، کو سے آراستہ کرنا۔ ـــــ ہ
ب: کو کچھ پہنچانا۔ فوج کو کمک پہنچانا۔ ـــــ: ملتوی کرنا،
تاخیر کرنا، مہلت دینا، پیپ پڑنا۔ اَمَدَّ باجله: اللہ
کا کسی کو زندگی میں ایک اور مہلت دینا۔ تَمَدَّد: پھیلنا،
بڑھنا، لمبا ہونا، بڑا ہونا، وسیع ہونا، کشادہ ہونا، (بستر
وغیرہ پر) لیٹنا یا پر یوں گرنا کہ ٹانگیں پھیل جائیں، پر
دراز ہونا، پاؤں پسار کر لیٹنا۔ اِمتَدَّ: پھیلنا (تاریں
پائپ لائن) بچھنا۔ ـــــ اِلی: تک پھیل جانا، تک پہنچنا،
ـــــ: ایک فاصلہ تک، پھیلا ہوا ہو، لمبا ہونا، طویل ہونا۔ ـــــ
اِلی: بڑھ کر، تک پہنچنا، بڑھ کر کچھ ہو جانا۔ اِستَمَدَّ ہ
من: کچھ سے لینا، حاصل کرنا، نکالنا، اخذ کرنا، سے
مستنبط کرنا، مشتق کرنا۔ ـــــ ہ: اپنے آپ کو کچھ بہم پہنچانا
یا فراہم کرنا۔ ـــــ ہ: سے مدد طلب کرنا۔ مدّ جمع مُدُود:
پھیلاؤ، وسعت، بڑھاؤ، فراخی، کشادگی، لمبا کرنا،
کھچاؤ، زیادتی، درازی، دوری، طول دینا، طوالت،
وقفہ، التواء، چڑھاؤ، پانی یا سیلاب کا چڑھنا۔ ـــــ ب:
کی فراہمی، بہم رسانی۔ مدّ البصر: حد نگاہ۔ مَدُّ
البصر: جہاں تک آنکھ دیکھ سکے۔ مدُّ النظر:
دور بینی، دور اندیشی۔ حروف المد: ا، و اور ی۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مَدَّہ: الف پر مد کی علامت جیسے آ۔ مُدّ جمع أمداد و مِداد: ایک پیمانہ مِدَۃ. پیپ، پیپ پڑا ہوا مادہ۔ مُدّۃ جمع مُدَد: عرصہ (وقت کا) وقفہ، مدت، وقت، دیر، دوران، محدود یا مقررہ وقت، میعاد۔ مُدَّةَ: کے اندر، کے اندر اندر، کے دوران میں، کے دوران۔ في مُدّةِ: کے اندر اندر، کے دوران میں، کے دوران۔ مدۃ (من الـزمن) عرصہ، مدت، وقت، زمانہ، عہد دور، وقفہ۔ مُدَّةً من الزمن: کچھ دیر کے لئے، کچھ عرصہ کیلئے، کچھ وقت کیلئے، مَدَد جمع أمداد: مدد اعانت، سہارا، پشت پناہی، کمک جمع أمداد: وسائل، معاون ذرائع۔ مِـداد: سیاہی، روشنائی، چراغ کا تیل، کھاد، گوبر، نمونہ، اسلوب۔ سَجَلَہُ بمدادِ الفَخْر: کو سنہرے حروف سے لکھنا۔ علی مدادٍ واحدٍ: ایک ہی نمونہ یا عمدہ مثال کی نقل میں یا تقلید میں، ایک ہی نمونہ یا عمدہ مثال جیسا۔ مَدِید جمع مُدَد پھیلا ہوا، پھیلایا ہوا، کھنچا ہوا، لمبا کیا ہوا، لمبا، طول پکڑ جانے والا، بہت طول پکڑ جانے والا، دراز، بڑا، پتلا اور لمبا، دبلا پتلا، چھریرا، بلند، بہت، زمانٌ مَدیدٌ یا مُدّةٌ مَدِیدَۃٌ: طویل وقت، لمبا عرصہ۔ عمر مدید: بڑی عمر۔ مدیدُ البصر دوبین، دوراندیش، مردِ آخر بین۔ مَدَّاد: ایک بیل جو دیوار یا درختوں وغیرہ پر چڑھی ہوتی ہے۔ اِمدَّۃ: تانا، تار، امدادات: معاون چیزیں، کمک، رسد (supplies)۔ علی امتداد: کے کنارے، کے کنارے پر، کے ساتھ، کے شانہ بشانہ، کے پہلو بہ پہلو۔ ماذ: زمین پر پھیلنے والی ایک بیل مادّۃ جمع مواد: چیز، شے، مال، مادہ، مادی قبضہ، اصل، اصل جز، جس چیز سے کچھ بنایا جائے سامان (material) جزو، جزو ترکیب، مشتمل حصہ، لازمی جز۔ جز، ترکیبی، بنیادی جز، مکمل اور کیمیادی عنصر، بنیاد، موضوع، مرکزی خیال، جواب مضمون، موضوع، مبحث (مدرسے کا) مضمون، میدان مطالعہ، تعلیمی شعبہ، موضوع (subject matter) نصابی مضمون، مضمون، مقالہ (قانون وغیرہ کا) پیراگراف یا فقرہ، شرط معاہدہ۔ جمع: سامان، مال، جس سے کچھ بنایا جائے۔ اسباب، عوامل، عناصر۔ مادۃ اصلیۃ: کسی لفظ کی اصل۔ مَوَادٌ اوّلیۃ: ابتدائی عناصر، خام مال، مواد تجاریۃ: اشیائے تجارت، سامان تجارت۔ مواد التجمیل سنگار کا سامان۔ مواد جنائیہ: مجرموں کے مقدمات (criminal cases)۔ موادٌ حربیۃٌ: جنگی سامان۔ مواد خام: خام مال۔ موادِ الصباغۃ: جن چیزوں سے رنگ تیار کئے جاتے ہیں، رنگ، رنگنے کے مسالے۔ مواد صُلبَۃ: ٹھوس اجزاء یا اشیاء۔ مواد مَصنُوعۃ: بنائی ہوئی چیزیں، ریڈی میڈ چیزیں۔ مواد التطبیب: کھانے یا لگانے کی دوائیں، دوائیں۔ مواد الإعاشۃ و مواد المعیش: کھانے پینے کی اشیاء خوراک۔ مواد غذائیۃ: اشیائے خوراک، کھانے پینے کا سامان، خوراک، غذائی اشیاء، چارا۔ مواد اللغۃ: کسی زبان کا ذخیرہ الفاظ۔ مواد مضادۃٌ لِلْحَیَویات: جراثیم کش ادویہ۔ موادٌ مُلْتَہبۃ: آتش گیر مادے، ایندھن، فوراً جل اٹھنے والے مادے۔ مواد مدنیۃ: دیوان مقدمات۔ مواد النَسِیج: کپڑے پارچے۔ مادی: مادی، حیوانی، جسمانی، دہری، مادہ پرستانہ جمع مادیون: دہریہ، مادہ پرست، خارجی، معروضی، واقعیت پسندانہ غیر جذباتی۔ مَادِیۃ: مادیت، مادہ پرستی، دہریت۔ المادیات و المعنویات: مادی اور خیالی اشیاء۔ مَمْدُود: بڑھایا ہوا، وسیع کیا ہوا، پھیلا ہوا، لمبا کیا ہوا، طول دیا ہوا، باہر نکالا ہوا، بڑا، دور تک پھیلا ہوا بہت۔ مدّہ لگایا ہوا۔ مُمَدَّد: پھیلا ہوا، بے قاعدہ، پھیلا ہوا، پڑا ہوا، دراز، لیٹا ہوا، لمبا، کھینچا ہوا۔ مُمْتَدّ: پھیلا ہوا، کھلا، وسیع، کشادہ، جامع۔ مُستَمَدّ من: سے لیا ہوا، سے اخذ کیا ہوا، سے مستنبط، سے مشتق۔ مَدَالِیہ جمع مَدَالِیَات: تمغہ۔ مَدَالِیُون: بڑا تمغہ، لاکٹ، تعویذ، (کان کا) آویزہ، (گلے کا) ہار۔

مدح: مَدَحَ - مَدْحًا و مِدْحَۃً: کی تعریف کرنا۔ مَادَحَ ہُ: کی تعریف کرنا۔ تَمَدَّحَ: غیر موجود خوبیوں پر فخر کرنا، اپنی تعریف آپ کرنا۔ ــالرجُلَ: کی تعریف کرنا ــ إلی الناس: لوگوں سے تعریف چاہنا۔ تَمَادَحَ القومُ ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ اِمْتَدَحَ: وسیع ہونا ــ فلاناً: کسی کی تعریف کرنا۔ اِمَّدَحَ: وسیع ہونا۔ المِدْحَۃ جمع مِدَح: مدح کا اسم۔ تعریف المَدِیح جمع مَدَائِح و الأُمْدُوحَۃ جمع اَمَادِیح تعریف۔ المَمَادِح: اچھی صفات، پسندیدہ خوبیاں (مقابح کا الٹ)۔

○ مَدَحَ - مَدْحًا و مِدحَۃً ہ: کی تعریف کرنا، کی حمد و ثنا کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا، کی ستائش کرنا، کے گن گانا، کو بڑھانا چڑھانا، کو نظموں میں مشہور کرنا۔ مَدَّحَ ہ: بمعنی مَدَحَہ۔ تَمَدَّحَ: تعریف کیا جانا، ستائش کیا جانا ــب: کی ڈینگ مارنا، خودستائی کرنا، پر اترانا، نازاں ہونا، فخر کرنا، گھمنڈ کرنا، کسی بات میں اپنے آپ پر اترانا یا فخر کرنا، پر بے جا فخر کرنا۔ اِمْتَدَحَ: بمعنی مَدَحَ۔ مَدْح: ستائش، تعریف، توصیف، مدح، تحسین، حمد و ثنا، آسمان پر چڑھانا، چار چاند لگانا، مدحی لٹریچر۔ المدح في اللّٰہ: اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تمجید۔ مدیح جمع مدائح: تعریف، ستائش، توصیف، مدحی قصیدہ۔ مدح قصیدہ، مدح سرائی، مدحت۔ قصیدہ مدحیہ۔ خراج تحسین۔ أُمْدُوحۃ جمع أمادِیح: بمعنی مدیح۔ تَمَدُّح: ستائش، تعریف، حمد و ثناء، تکبیر، تمجید، خودستائی، لاف زنی، شیخی، خودنمائی۔ مَادِح و مَدّاح: ثناخوان، قصیدہ گو، مدح گو۔ مدّاح: مدح کرنے والا، تعریف و تحسین کرنے والا۔

مدخ: ۱۔ مَدَخَ - مَدْخًا: بڑا ہونا۔ تَمَدَّخَ: تکبر کرنا، ــت الإبلُ: اونٹ کا بہت چربی والا ہونا۔ المَادِخ و المَدِیخ و المِدِّیخ: عظیم، قوی۔

۲۔ مَدَخَ - مَدْخًا فلاناً: کی پوری پوری مدد کرنا۔ مَادَخَ ہُ: کی خیر و شر میں مدد کرنا۔

۳۔ تَمَدَّخَتِ الناقۃُ: اونٹنی کا چلنے میں گھسنا۔ تَمَادَخَ علیہ: پر ظلم کرنا۔ ــ عنہ: میں سستی کرنا۔ اِمْتَدَخَ علیہ: پر ظلم کرنا۔

۴۔ المَدُوخ و المُتَمَادِخ: جلدی کام کرنے والا۔

مدر: مَدَرَ - مَدْرًا المکانَ: جگہ کو مٹی سے لیپنا۔ ــ الحوضَ: حوض کی پتھر کی جھری کو مٹی سے بند کرنا۔ مَدِرَ - مَدَراً: بڑے پیٹ والا ہونا۔ مَدَّرَ: بیٹ کرنا۔ ــ المکانَ: جگہ کو مٹی سے لیپنا۔ ــ الحوضَ: حوض کی پتھر کی جھری کو مٹی سے بند کرنا۔ تَمَدَّرَ: مٹی سے لپ جانا، آلودہ ہونا۔ اِمْتَدَرَ المَدَرَ: مٹی لینا۔ المَدَر (مص): بغیر ریت کی کیچڑ، شہر و دیہات، شہری لوگ۔ المَدَرَۃ: مٹی کا ڈھیلا۔ مَدَرَۃُ الرجُلِ: گھر۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ سیّد مَدَرَتِہ: فلان اپنے شہر کا سردار ہے۔ المَدَرِیّ: دیہاتی۔ الأَمْدَر: بہت گوبر کرنے والا اور اسے روکنے سے عاجز، دونوں پہلوؤں سے خاک آلودہ، غبار آلود، بڑے پیٹ والا۔ رجُلٌ أمْدَر: بڑے پیٹ اور پہلوؤں والا جو خاک آلود ہوں۔ المَدْراء: امدر کا مؤنث (ج): بجو۔ بنو مدراءَ: شہری لوگ۔ مکانٌ مَدِیر: مٹی سے لپی ہوئی جگہ۔ المَمْدَرَۃ والمِمْدَرَۃ: مٹی لینے کی جگہ۔ ابلٌ مُمَدَّرَۃ: موٹے فربہ اونٹ۔ مَکانٌ مَمْدُورٌ: مٹی سے لپی ہوئی جگہ۔

○ مَدَر (اسم جمع واحد مدرۃ): مٹی یا گارے کے ڈھیلے، نباتاتی کھاد والی زرخیز مٹی، چکنی مٹی، گارا۔ اھل الوَبَرِ والمَدَرَ: خانہ بدوش اور شہری، بدو اور بیٹھے رہنے والے آبادی۔ مَدَرۃ: مٹی یا گارے کا ڈھیلا، مٹی کا کوبڑا۔ مُدَراء: مدیر کی جمع: دیکھئے دور۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مَدْرَاس: جنوبی بھارت کا ایک صوبہ اور شہر:

مدرید: میڈرڈ (Madrid) ایک شہر کا نام ہے۔

مدس: مَدَسَ ـ مَدْسًا الجلدَ و نَحوَهُ: چمڑے وغیرہ کو ملنا۔

مدش: امَدَشَ ـ مَدْشًا من الطعام: تھوڑا سا کھانا کھانا۔ ـلفلان من العطاء: کو تھوڑا دینا مَدِشَ ـ مَدَشَاتْ عينهُ: بھوک وغیرہ سے کی آنکھ کا تاریک ہونا، چندھیانا ـت يدُهُ: کے ہاتھ کا ڈھیلے پٹھوں اور کم گوشت والا ہونا صفت اَمْدَش م مَدْشاء جمع مُدْش ـ مَدَّشَ و امْدَشَ: دینا، عطا کرنا۔ کہا جاتا ہے ما مَدَّشْتهٗ شيئًا و لا امْدَشني شيئا: نہ میں نے اسے کچھ دیا اور نہ اس نے مجھے کچھ دیا۔ المدْش (مص): تھوڑی دی ہوئی چیز ـالمَدَش (مص) گرمی یا بھوک سے آنکھ کی تاریکی۔ ہاتھ کے پٹھوں کا ڈھیلا پن اور کم گوشت والا ہونا۔ عورت کے پستان پر گوشت کی کمی۔

۲ـالمَدَش: پاؤں کی پھٹن، چہرہ کی سرخی اور خشونت، حماقت، بے وقوفی، کہا جاتا ہے ما به مَدَش: اس کو کوئی بیماری نہیں ـالمَدِش: بیوقوف۔ کہا جاتا ہے ما به مَدْشَةٌ: اس کو کوئی بیماری نہیں ـرجُلٌ مَدَّاشُ اليد: چور۔

مدع: المَدْعَة: ناریل جس کی گری نکال کر اسے پیالہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو ـالمَدْعِيّ: مطعون نسب والا ـالمَيْدَع (ح): سمندر کی چھوٹی مچھلیاں۔

مدق: مَدَقَ ـ مَدْقًا الصخرةَ: چٹان توڑنا۔

مدل: تَمَدَّل بالمنديل: سر پر رومال باندھنا یا اس کی پگڑی باندھنا۔

مدن: مَدَنَ ـ مُدُونًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ (یہ فعل متروک الاستعمال ہے) ـالمدينةَ: شہر میں آنا ـمَدَّنَ المدائِنَ: شہر بنانا، آباد کرنا ـتَمَدَّن: شائستہ و مہذب ہونا ـتَمَدْيَنَ: آسودہ حال ہونا۔ المَدِيْنَة جمع مُدْن و مُدُن و مدائِن: شہر، قصبہ۔ مدینہ منورہ جس کا نام ہجرت سے قبل یثرب تھا ـمدينةُ السلام: بغداد ـالمَدَائِن: بغداد کے قریب ایک شہر جس میں کسریٰ کا ایوان تھا۔ جمع سے موسوم ہونے کی وجہ اس کا بڑا ہونا تھا ـنسبت مدَائِني: مدائن کا، مدائن کے متعلق۔

۲ـالمَدِين (ح): شیر ـالمَدَان: ایک بت کا نام۔

○ مَدَّنَ: شہروں کی بنیاد رکھنا، شہر تعمیر کرنا، مہذب بنانا، متمدن بنانا، شہری بنانا، شہر آباد کرنا، انسان بنانا، نرم دل کرنا، شائستگی سکھانا ـتَمَدَّنَ: مہذب ہونا یا ہو جانا، متمدن ہونا یا ہو جانا ـتَمَدْيَنَ: مہذب یا متمدن ہونا یا ہو جانا۔ تہذیب و تمدن کی آسائشوں سے لطف اندوز ہونا، متمتع ہونا، شہری آسائشوں سے لطف اندوز ہونا، متمتع ہونا، زندگی کے مزے لینا ـمدينة النبي یا المدينة: مدینہ منورہ جسے عموماً المدينة المنوَّرة کہا جاتا ہے ـمدينة الكاب: کیپ ٹاؤن ـالمُدُن الكُبرىٰ: بڑے شہر ـمَدَني: شہری، شہر میں رہنے والا، قصبہ میں رہنے والا، مہذب۔ متمدن شائستہ، حکومت کا غیر فوجی اہلکار (civilian)، معاشرتی، اجتماعی، بلدیاتی، لادینی، غیر مذہبی، مدینہ کا دعویٰ ملنية: دیوانی دعوی یا مقدمہ، دیوانی کارروائی ـالطيرانُ المَدَني: شہری ہوابازی (civil aeronantics) قانونٌ مَدَنيٌّ: دیوانی قانون ـمَدَنِيَّة: تہذیب، تمدن ـتَمَدُّن و تمدين: تہذیب، تمدن، اجتماعی یا معاشرتی، شائستہ ثقافت ـتَمدُّني: مہذب، متمدن۔ مُتَمَدِّن: مہذب، متمدن، شائستہ، تعلیم یافتہ، پر تصنع۔ مُتَمَدْين: مہذب، متمدن، تہذیب و تمدن کی آسائشوں سے مستفید۔

مده: مَدَهَ ـ مَدْهًا هُ: کی تعریف کرنا۔ صفت مَادِه جمع مُدَّهٌ ـ تَمَدَّهَ الرجُلُ: تعریف کیا جانا۔

مدی: مَادَى مُمَادَاةً فلانًا: کو مہلت دینا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا يماديه احدٌ: اسے کوئی مہلت نہیں دیتا۔ اَمْدَى إمْدَاءً ا فلانًا: کو مہلت دینا ـالرجُلُ: عمر رسیدہ ہونا، زیادہ دودھ پینا ـتَمَادَى في غَيِّهِ: گمراہی میں دیر تک رہنا، اس پر اصرار کرنا۔ ...في الامر: کام میں انتہاء تک پہنچنا ...بنا السفرُ: سفر کا لمبا ہونا ـالمَدَى: غایت، حد، کہا جاتا ہے بلغ مَدَى الحياة: وہ زندگی کی انتہاء کو پہنچ گیا ـالمَدْيَة والمِدْيَة جمع مُدًى و مِدًى و مديات و مُدْيَات: بڑی چھری ـالمُدْيُ جمع أمْدَاء: شام اور مصر کا ایک پیمانہ جو ۱۹ اصاع کے برابر ہے ـالمُدْيَة: غایت حد۔ کہا جاتا ہے بلغ مُدْيَة الحياة: وہ زندگی کی انتہاء کو پہنچ گیا۔...... جمع مُدًى و مِدًى و مُدْيات و مُدَيَات: بڑی چھری ـمُدْيَةُ القوس: کمان کا وسطی حصہ ـالمَدِى جمع أمْدِيَة: جوہڑ۔ جوہڑ کا کھلا ہوا گندہ پانی ـالمِيداء: غایت، حد، کہا جاتا ہے بلغ مِيدَاءَ الحياة: وہ زندگی کی انتہاء کو پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے: داري مِيدَاءَ دارِه: میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے ـالأمْدَى: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے فلانٌ أمْدَى العرب: فلاں شخص عربوں میں سب سے

○ مَادَى ه: کو مہلت یا توقف دینا ـامدى: بمعنی مَادَى ـ تَمَادَى في/ب/علي: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، سے لگا رہنا، سے وفاداری کرنا، سے چپکنا، وابستہ رہنا۔ ...في: کو جاری رکھنا، کو کرتے رہنا، میں دور تک جانا، حد تک جانا ـتَمَادَى: جاری رہنا، رہنا، لمبا ہونا ـمَدًى: توسیع، وسعت، پھیلاؤ، وسیع علاقہ، پہنائے، پھیلاؤ، کشادگی، ترویج، مدت، عرصہ، رسائی، پہنچ، دائرہ، مار (range)، دسترس، گنجائش، حد نظر، خیال کی وسعت، فاصلہ، وقفہ، مدت، علاقہ، خطہ، حد، درمیانی فاصلہ، درجہ، پیمانہ، تناسب، انتہائی نقطہ، انتہاء، حد، غایت، نہایت، دوران، مدت ـمَدَى: کی مدت کیلئے، کے دوران، دیئے گئے عرصہ میں ـمَدَى البصر: حدِ نظر ـمدى الحياة: زندگی بھر کیلئے، عمر بھر ـالمدى الحَيَوِي: زندہ رہنے کیلئے جگہ ـمدى الدوران: لگاتار، متواتر، پے در پے، ہمیشہ، دائمی، دوامی، بار بار ـمدى الصوت: آواز کی رسائی، پہنچ، آواز کے پہنچنے کا فاصلہ ـمدى العمر: عمر بھر ـمدى الايام: لگاتار متواتر، پے در پے، تمام دنوں میں ـبلى مدى بعيد: بہت فاصلہ پر ـعلى مدى عشر امتار: دس میٹر کے فاصلہ پر ـبعيد المدى: دور رس ـمِدْفَعٌ بعيدُ المَدَى: دور مار توپ ـفي المدى الاخير: بہرحال، بہر صورت، سب کچھ کہنے اور کرنے کے بعد۔ آخری تجزیہ میں ـمَدْيَة و مُدْيَة و مِدْيَة جمع مُدًى و مِدًى و مُدْيات و مُدَيَات: قصائی کا چھرا، چھرا، چھری ـمَدَوِي و مُدَوِي و مِدَوِي: چھری چاقو والا، کاردگر، کاردفروش ـمع التمادى مع طول التمارى: اس نشیب و فراز کے بعد، آخرکار، آخر، بالآخر، انجام کار۔

○ مُدِيل جمع مُدِيلات: نمونہ (model) (فرانسیسی لفظ)

مذ: مُذْ: دیکھئے مُنْذ۔

مذّ: مَذْمَذَ مَذْمَذَةً الرجُلُ: جھوٹ بولنا ـالمَذْمَاذ م مَذْمَاذة: بہت چلانے والا، باتونی ـالمِذْمِيذ: جھوٹا۔

مذج: مَذِجَ ـ مَذَجًا الشيءُ: چیز کا کشادہ ہونا، پھولنا ـمَذَّجَ تَمْذِيجًا الشيءَ: چیز کو کشادہ کرنا، وسیع کرنا ـتَمَذَّجَ الشيءُ: چیز کا کشادہ ہونا، پھولنا ـالاناءُ: برتن کا بھرنا ـالبِطّيخُ: خربوزہ کا پکنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مدح: مَدِحَ ـمَذَحًا: رگڑ کھانے یا پسینہ آنے سے، رانوں یا خصیوں یا سرینوں کا جلنا۔ سوزش کرنا، صفت اُمْدَح: تَمَذَّحَ الشیءُ: چیز کو چوسنا۔ المَذَح (مص): جنگلی انار کے پھول کا شہد۔ الاُمْذَح: بدبودار

مذح: تَمَذَّخَ الرجُلَ: چوسنا، چسکی لگانا۔ المَذَخ: جنگلی انار کے پھول کا شہد۔

مذر: ۱۔ مَذِرَ ـمَذَرًا ت البیضةُ: انڈے کا خراب بدبودار اور گندہ ہونا صفت مَذِرة۔ عوام کہتے ہیں: مُوْذَرَتْ. انڈے کا گندہ اور بدبودار ہونا۔ مَمْوْذِرَة: گندہ انڈا۔ ت نفسُهُ او معدتُهُ: کا جی متلانا، کے معدہ کا مضطرب ہونا۔ ـــ الرجلُ: پانی کے خزانہ کی طرف بہت آمد ورفت رکھنا۔ اُمْذَرَت الدجاجةُ البیضةَ: مرغی کا انڈے کو خراب اور گندہ کرنا۔ تَمَذَّرَت البیضةُ او المعدةُ او النفسُ: انڈے یا معدے کا گندہ اور خراب ہونا اور جی کا متلانا۔ المَذِر: سڑا ہوا خراب اور گندہ و میلا۔ امرأة مَذِرَة: گندی عورت۔ الاُمْذَر: پانی کے ذخیرے کی طرف بہت آمد ورفت رکھنے والا۔ المِذار من النساء: چغل خور عورت۔

۲۔ مَذَرَ الشیءَ: چیز کو بکھیرنا، پراگندہ کرنا۔ تَمَذَّرَ: پراگندہ ہونا۔ ـــ اللبنُ: دودھ کا مشک میں پھٹنا۔ کہا جاتا ہے: تفرَّق القومُ شذر مَذَرَ: لوگ ہر طرف بکھر گئے۔

ـ مَذِر ـمَذَرًا: انڈے کا گندہ ہونا، گل سڑ جانا۔ مَذَّرَهُ: کو بکھیرنا، منتشر کرنا، تتر بتر کرنا، ادھر ادھر پھیلانا یا چھڑکنا۔ تمذَّر: بمعنی مَذِرَ۔ شَذَرَ مَذَرَ: ادھر ادھر بکھرا ہوا۔ مَذِر: خراب، سڑا ہوا، گلا سڑا، گندہ۔

مذق: ۱۔ مَذَقَ ـمَذْقًا اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا۔ ـــ فلانًا و لفلانٍ: کو پانی ملا دودھ پلانا۔ ـــ الودَّ: خالص دوستی یا محبت نہ کرنا۔ مَاذَقَ مِذَاقًا و مُمَاذَقَةً فلانًا فی الودِّ: سے سچی اور خالص دوستی یا محبت نہ رکھنا۔ اِمْتَذَقَ و امَّذَقَ الشرابُ او اللبنُ: شراب یا دودھ کا پانی میں ملا ہوا ہونا۔ لبنٌ مَذِقٌ و مَذِیقٌ و مَمْذُوقٌ: پانی ملا دودھ۔ المَذَّاق: خالص دوستی نہ رکھنے والا، غیر مخلص۔

۲۔ رجُلٌ مَذِقٌ: رنجیدہ و دل گرفتہ آدمی۔

ـ مُذَق: پانی ملی شراب۔ مَذِیق: پانی ملی چیز، پتلا، پانی ملا کر ہلکا اور پتلا کیا ہوا۔ مَذَّاق و مُمَاذِق: غیر مخلص، منافق۔

مذل: ۱۔ مَذَلَ ـمَذْلًا و مِذَالًا و مَذِلَ ـمَذَلًا بسرِّہ: پریشان ہو کر راز کھول دینا۔ و مَذَلَ ـمذالة ت نفسہ بالشی: ... کی فیاضی کرنا صفت مَذِیل۔ کہا جاتا ہے: مذل بمالہ و مذل بنفسہ: اس نے اپنے مال اور اپنی جان کی سخاوت کی۔ اَمْذَلَهُ: کو دق کرنا، زچ کرنا۔ المَاذِل: سخی، فیاض وہ شخص جس کا نفس کسی چیز سے بھر جائے اور وہ اسے چھوڑ کر دوسری چیز کی امید لگائے۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مَذْلُ الید او النفس: فلاں شخص فیاض ہے۔ المَذِل: وہ شخص جس کا نفس کسی چیز سے بھر جائے اور اس کو چھوڑ کر دوسری چیز کی امید لگائے۔ پریشان، راز افشاء کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: ھو مَذِل بمھجتہ: وہ اپنی جان نثار کرنے والا ہے۔ المَذِیل جمع مَذْلَی: بے قرار پریشان، راز افشا کرنے والا۔ المِمْذَل: دق ہو کر راز بتانے والا۔

۲۔ مَذِل ـمَذَلًا ت رجلُهُ: کے پاؤں کا سن ہو جانا، سو جانا۔ اَمْذَلَت رجلُهُ: کا پاؤں سن ہو جانا۔ اِمْذَلَّ اُمْذِلالًا: سست اور ڈھیلا ہونا۔ ...... تْ رِجلُهُ: کا پاؤں سن ہونا۔ المَذَل (مص): سستی، بے حسی۔ المِمْذَل: جس کا پاؤں اکثر سن ہو جاتا ہو۔

۳۔ المِذْل: چھوٹے جسم والا۔ المُذْلَة: کھجور کی گٹھلی، چٹان کا گڑھا۔

ـ مَذِل ـمَذْلًا و مَذَالًا: (راز) افشا کرنا، راز سے پردہ اٹھانا۔

مذی: ۱۔ مَذَی یَمْذِی مَذْیًا و مَذَّی الفرسَ: گھوڑے کو چرنے کیلئے چھوڑنا۔ اَمْذَی الفرسَ: گھوڑے کو چرنے کیلئے چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے: اَمْذِ بعنانِ فَرَسِك: اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑ دے۔ ...... الشرابَ: شراب میں پانی ملا کر ہلکا کرنا۔ المَاذِیّ: شہد۔ المَاذِیَّة: حلق میں جلد اترنے والی شراب۔ نرم یا سفید زرہ۔ المَذْیُ: حوض کی نالی سے نکلنے والا پانی۔ المِذی: حوض سے نکلتے ہوئے پانی کی نالی۔

۲۔ المَاذِی: لوہے کا ہر ہتھیار۔ المَذِیَّة و المَذیَة جمع مِذاء و مَذِیَّات: آئینہ، شیشہ۔

مرّ ۱۔ مَرَّ ـمَرًّا و مُرورًا مَمَرًّا: گزرنا، عبور کرنا۔ ...... ہُ و مَرَّ بہ و علیہ: کے پاس سے گزرنا، کے قریب سے گزرنا۔ مَرَّرَ الشیءَ: کو زمین پر پٹخ دینا۔ مَارَّ مِرارًا و مُمَارَّةً الرجُلَ: کے ساتھ گزرنا۔ ـــ علی الارض: زمین پر کھنچنا، کھنچتا جانا۔ اَمَرَّ فلانًا بکذا: کو کے پاس سے گزارنا۔ ...... ہُ علی الجسر: کو پل پر سے گزارنا، کو پل عبور کرانا ـــ یَدَہُ علی الشیءِ: کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا۔ تَمَارَّ القومُ: ایک دوسرے کے پاس سے گزرنا۔ اِمْتَرَّ بہِ و علیہِ: سے گزرنا۔ اِسْتَمَرَّ: گزرنا، جانا۔ المَرّ: بیلچہ، کرچھا، کہا جاتا ہے: جئتُہُ مَرًّا اور مَرَّتین: میں اس کے پاس ایک یا دو بار آیا۔ المَرَّة جمع مَرّ و مِرار و مُرُور و مَرَّات: ایک بار، کہا جاتا ہے۔ لقیتُہُ مَرَّةً و ذات مَرَّةٍ: میں اسے ایک دفعہ ملا۔ لقیتُہُ ذاتَ المِرار: میں اسے کئی بار ملا۔ المَمَرّ (مص): گزرگاہ۔

۲۔ مَرَّ ـمَرًّا البعیرَ: اونٹ کو رسی باندھنا۔ اَمَرَّ الحبلَ: رسی بٹنا۔ کہا جاتا ہے: مازال فلانٌ یُمِرُّ فلانًا: کسی کا کسی کو بچھاڑنے کے لئے ہاتھا پائی کرنا۔ فلانٌ ذو نقض و إمرار: فلاں شخص برسر اقتدار ہے۔ صاحب حل و عقد ہے۔ مَارَّ مِرارًا و مُمَارَّةً الرجُلَ: کو بچھاڑنے کے لئے اس سے لپٹنا۔ تَمارَّ ما بینھُم: ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔ کہا جاتا ہے: ھما یتمارّان: وہ آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ اِسْتَمَرَّ: ایک حالت پر یا طریقہ پر باقی رہنا۔ جاری رہنا، برقرار رہنا، ثابت قدم رہنا۔ ـــ بہ علی کذا: کو پر برقرار رکھنا، ثابت و باقی رکھنا۔ ـــ الرجُلُ: کا کام درست و استوار ہونا ـــ بالشیءِ: کو اٹھائے رکھنا۔ المَرّ (مص): رسّی۔ المِرَّة (مص): رسی کی لڑی۔ حبلٌ شدیدُ المِرَّة: سخت بٹی ہوئی رسی۔ جمع مِرَر و جمع اَمْرار: رسی کی طاقت، طاقت، مضبوطی، ذہانت، کسی چیز کی دائمی حالت۔ المَرِیر و المَرِیرَة جمع مَرائِر: پختہ ارادہ۔ ...... من الحبال: مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ رجُل مَرِیرٌ: طاقت ور پختہ ارادے والا۔ کہا جاتا ہے: اِسْتَمَرَّ مریرُہُ: وہ کمزوری کے بعد طاقت ور ہو گیا۔ امرٌ مَرِیرٌ: مستحکم کام۔ المَرِیرَة جمع مَرائِر: عزت نفس، رسی کی لڑی، کہا جاتا ہے: اِسْتَمَرَّت مریرتُہ علی کذا: وہ اس معاملہ میں نہ جھکا اور اس کا عادی ہو گیا۔ الاَمَرّ م مُرَّی: اسم تفضیل: زیادہ مستحکم۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ اَمَرُّ عقدًا من فلانٍ: فلاں شخص کا معاملہ فلاں شخص سے زیادہ مستحکم اور عہد پورا کرنے میں بہتر ہے۔ المُمَرّ (مفع): مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ قِربَةٌ مَمْرُورَةٌ: بھری ہوئی مشک۔

۳۔ مَرَّ ـمَرارَةً: کڑوا ہونا، تلخ ہونا۔ مُرَّ یُمَرّ ب مَرًّا و مِرَّةً بفلان: پر صفرا کا غلبہ ہونا صفت مَمْرُور۔ مَرَّرَ الشیءَ: کو کڑوا بنانا، تلخ کرنا۔ اَمَرَّ الشیءَ: کو کڑوا بنانا۔ کہا جاتا ہے: ما اَمَرَّ فلانٌ و ما اَحْلَی: اس نے کوئی کڑوی یا میٹھی بات نہیں کی۔ ما یُمِرُّ و ما یُحلی: نہ ضرر رساں نہ نفع بخش۔ اِسْتَمَرَّ الشیءَ: کو کڑوا پانا۔ المارُورَة: کھانے میں سیاہ دانہ جس سے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ المُرّ: کڑوا۔ لوبان کی طرح گوند۔ مُرّ الصحاری: حنظل، اندرائن، موگل،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

خیار تلخ، کڑوا کھیرا، تلخ سیب۔ المِرۃ جمع مِرار (ع ا): صفراء یا سوداء۔ المَرۃ جمع مَرائِر: مُر کی مؤنث۔ کڑوی، کہا جاتا ہے۔ لقی منه المُرَّتین اس نے اس سے بہت تکلیف پائی۔۔۔ جمع مُرّ و امرار (ن): ایک قسم کی سبزی۔ بہت بخیل۔ ابو مُرَّۃ: ابلیس کی کنیت۔ المُرّی۔ سالن، چٹنی۔ ایک قسم کی دواء۔ المُرار (ن): ایک کڑوی بوٹی۔ المَرارۃ (مص) جمع مَرائِر و مَرَرات (ع ا): پتا۔ المُرَیراء: گیہوں میں کالا دانہ جو پھینک دیا جاتا ہے۔ الأمَرّ: امعاء، آنتیں، معدہ۔ ۔م مُرّی زیادہ کڑوا۔ الامرّان غربت اور بڑھاپا۔ دو کڑوی چیزیں۔ کہا جاتا ہے: لقی منه الامرّین اس نے اس سے بہت تکلیف پائی۔ اس نے اس سے سختی اور تلخی دیکھی۔

۴۔ مرمَرَ: غضبناک ہونا۔ تمرمَرَ الرمل ریت کا اڑنا، موج مارنا۔ ۔۔ الجسمُ جسم کا کانپنا۔ ۔۔ علی اصحابه اپنے ساتھیوں پر تسلط رکھنا، کا امیر ہونا، عام لوگ اس کو بڑبڑانے اور شکایت کرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ المَرمر نرم، ہلتا ہوا تھلتھلانے والا۔ المَرمَار: نازک بدن، تھلتھلانے والا۔ مونث مَرمارۃ۔ المُرامِر بمعنی بالا۔ المُرمُورۃ: نرم اور متاثر کن لونڈی۔

۵۔ مَرمَرَ الماءَ: پانی زمیں پر بہانا۔

۶۔ مَرمَرَ الشیءُ: کڑوا ہونا (عوامی زبان میں)۔

۷۔ المَرمَر بہت رس والا انار۔ (طا) واحد مَرمَرۃ: سنگ مرمر۔ سنگ مرمر کی ایک قسم جو بہت سفید ہوتی ہے (یونانی لفظ)۔ المَرمَرۃ: بہت بارش۔ المَرمار: بہت رس والا انار۔ المُرامِر: باطل۔

۸۔ المَرمَرِیس چکنا، سخت، مصیبت، لمبی گردن، المِرمِیس (ح): گینڈا (یونانی لفظ)۔

مَرّ ۔ مَرًّا و مُرورًا و مَمَرًّا علی/ب کسی شخص یا چیز کے پاس سے گزرنا، کے پاس سے ہو کر آگے جانا، مٹرگشت کرنا، چہل قدمی کرنا، ۔۔۔ امام کے سامنے مارچ پاسٹ کرنا، کے سامنے سے گزرنا ۔۔۔: وقت کا گزرنا، ۔۔ علی ب: کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آنا، جانا یا چلنا یا گزرنا۔ کے کنارے کنارے جانا ۔ من ب علی میں سے گزرنا، جانا، چلنا، حرکت کرنا، مارچ کرنا یا سفر کرنا۔ ۔۔ من (ملک، جگہ، کمرہ) کو عبور کرنا، میں سے گزرنا، کے پار جانا، میں سے بہنا، میں سے نکل جانا، میں سے اڑ کر نکل جانا۔ ۔۔ فی کسی علاقہ یا سرحد سے نکل جانا، کے پار ہونا، کو عبور کرنا۔ ۔۔ ب کسی مرحلہ یا حالت سے گزرنا، کسی حالت یا صورت سے گزرنا۔ ۔۔ علی: سرحد، قطار، پہاڑ وغیرہ عبور کرنا۔ ۔۔ فوقَ: ہوائی جہاز کا کسی علاقہ پر پرواز کرنا۔ ۔۔ چلے جانا، رخصت ہونا، روانہ ہونا۔ ۔ بفعل کو کرتے رہنا، مَرَّ ذکرُہ اس پر بحث کی جا چکی ہے۔ اس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ کما مَرَّ بنا جیسا کہ یہ ہمارے سامنے سے گزرا، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ مَرَّ بالامتحان امتحان پاس کرنا۔ مَرَّ بسلام کسی افسوس ناک حادثہ کے بغیر ہو جانا، اچھا ثابت ہونا، اچھا نکلنا۔ مَرَّ علیه ببصرہ کو بڑے غور سے دیکھنا، کو جلدی سے بغور پڑھنا، مَرَّ مَرَّ البرق تیزی سے گزر جانا۔ مَرَّ مرَّ الکرام: ایسے گزر جانا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تیزی یا پھرتی سے گزر جانا۔ مَرَّ به (علیه) مَرَّ الکرام کو کشادہ دلی سے نظر انداز کرنا، سے عظمت کے ساتھ چشم پوشی کرنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا۔ مَرَّرَہ کو گزرنے دینا، کو منتقل کرنا، پہنچانا، (گیند) پاس کرنا۔ مَرَّرَ سفینة علی القناۃ جہاز کو نہر سے گزارنا یا لے جانا۔ امَرَّہ علی/ب: کو کے پاس سے جانے یا گزرنے دینا، ۔۔ ہ/ہ علی/ب کو سے گزرنے دینا، کی سے گزرنے میں رہنمائی کرنا، کو سے گزارنا، کو کچھ چبھونا، کو میں داخل کرنا۔ امَرَّ نظرَہُ علی: پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، پر اپنی آنکھوں کو بھٹکنے دینا۔ اِستمَرَّ قائم رہنا، باقی رہنا، ٹھہرنا، دیرپا ہونا، برقرار رہنا، جاری رہنا، پائدار ہونا۔ ۔۔ علی/فی: کو جاری رکھنا، ۔ یفعل کو جاری رکھنا۔۔ علی/فی پر جمے رہنا، میں لگے رہنا، پر ثابت قدم رہنا، اڑے رہنا، کو کرتے رہنا، کے متعلق جدوجہد جاری رکھنا، کی کوشش کرتے رہنا۔ سے چپکنا، چسپاں ہونا۔ مَرّ: گزرنا، کے پاس سے جانا، گزرگاہ، گذر، عبور، راستہ، راہ، تبدیلی، تغیر، بڑھاؤ، پیش روی، عمل، گزرنا (وقت کا) رفتار وقت، لوہے کا پھاوڑا، کھرپا، کڑچھا، بیلچہ، رسی۔ علی مرِّ الزمان: وقت گزرنے کے ساتھ۔ مَرّ جمع مَرّات و مِرار: وقت، عرصہ، باری۔ مَرَّۃً ایک بار، مَرّتین: دو بار۔ مرّات: کئی بار، بار بار، اکثر۔ مِرارًا: کئی بار ایک سے زیادہ دفعہ، اکثر و بیشتر، گاہے گاہے، بعض اوقات، کبھی کبھی، خاص موقعہ پر۔ مَرّۃً ما یا ذات مَرّۃٍ: ایک بار، ایک دن۔ مَرّۃً اُخری یا مَرّۃً جدیدۃً ایک بار پھر، نئے سرے سے، ازسرنو۔ مرّۃً بعد مرّۃ: بار بار، بارہا۔ مرّۃً عن مرّۃ: بار بار، بارہا۔ المرّۃ تِلوَ المرّۃ: بار بار، اکثر۔ مَرّۃً واحدۃً: فوراً، ایک وقت پر، بالآخر، آخرکار [illegible] مرّۃٍ ایک [illegible] بار، کئی بار۔ بالمرّۃ مطلقاً، یقیناً واقعی، تمام کا تمام، یکسر، ایک، تمام تر، بالکل، بالکل ہی، ہرگز، مطلق۔ (نفی کی صورت میں) نہیں قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، کسی طرح بھی نہیں۔ غیرَ مرّۃٍ یا غیر ما مرۃ: کئی بار، ایک سے زیادہ دفعہ۔ کم مرّۃً: کتنی بار؟۔ للمرۃِ السادسه: چھٹی بار۔ لآخر مرۃٍ یا للمرۃ الاخیرۃ آخری بار۔ لاوّلِ مرّۃٍ: پہلی بار، مرارًا عدیدۃً اکثر۔ مِرارًا و تکرارًا بار بار۔ مُرور. گزرنا، پریڈ، مارچ پاسٹ (اَمام کے ساتھ) گزرگاہ، مارچ، سفر، سیر (علی من ب کے ساتھ)، عبور، منتقلی، بہاؤ، روانی، پرواز (فوقَ کے ساتھ)، لگاتار فلمی منظر۔ آمدورفت، عمل، ترقی، بڑھنا، دوران وقت، (وقت کا) گزرنا، معائنہ۔ مرور الزمان: آخری مدت کا خاتمہ۔ تذکرۃ المُرور: پرمٹ، پاس، پاسپورٹ۔ حرکة المرور. سیدھی، براہِ راست یا بلا مزاحمت آمدورفت۔ شُرطةُ المرور: ٹریفک پولیس، شاہراہ پر گشت کرنے والی پولیس۔ نِظام المرور: ٹریفک کے ضوابط۔ ممر: گزرنا، قریب سے گزرنا، وقت کا گزرنا، وقت کا اختتام، تبدیلی، عبور، رسائی، پہنچ، راہ راستہ، گزرگاہ جمع ممَرّات: درمیانی راستہ، پایاب مقام (پہاڑی درہ۔ ممر سُفلی: زمین دوز درہ۔ علی ممر العصور صدیوں کے دوران۔ اِمرار: (سے) گزارنا، (میں) داخل کرنا۔ باستمرار. لگاتار، متواتر، پے درپے، اکثر، ہمیشہ۔ دواما و إستمرارا: ہمیشہ، مسلسل لگاتار، پے درپے، بلا رکاوٹ و خلل۔ قوۃُ الاستمرار: سستی، کاہلی۔ مارّ: گزرنے والا، جانے والا، چلنے والا، سوار وغیرہ جمع مارّون و مارّۃ: راستہ چلنے والا، راہ گیر، پیادہ، پے دل، سیر کرنے والا، ٹہلنے والا۔ المارّ ذکرُہ: مذکورہ بالا، جس پر پہلے بھی گفتگو کی جا چکی ہے۔ تیّارٌ مستمر: ڈائریکٹ کرنٹ (بجلی)۔ موجاتٌ مستمرہ: مسلسل موجیں، لہریں (فزکس)

مرأ: ا۔ مَرَأَ ۔ مَرءًا الرجُلُ: کھانا۔ ۔ الطعامُ فلانًا: کھانے کا کسی کو نافع و مفید ہونا۔ ۔ مَراءَۃً الطعامُ: کھانے کا خوشگوار ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ هنانی و مرانی الطعامُ: کھانا مجھے خوشگوار ہوا۔ اگر هنانی نہ کہا جائے تو پھر امرانی کہا جائے گا۔ (باب افعال سے)۔ مَرِئَ ۔ مَراءَۃً الطعامُ: کھانے کا خوشگوار ہونا۔ ۔۔ مَرَأ: زنانہ طرز کا ہونا (شکل اور باتوں میں)۔ مَرُؤَ ۔ مَراءَۃً الطعامُ: کھانے کا خوشگوار ہونا۔ ۔۔ المکانُ: جگہ کا اچھی آب و ہوا والا ہونا۔ مرّأہُ: کسی کو هنیئًا مرینًا کہنا۔ کسی کو اچھی صحت کی دعا دینا۔ اَمرَأ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اِستمرأ فلان الطعام: کھانے کا کسی کو نافع ومفید ہونا۔ اِستمرأ الطعام: کھانے کو مزیدار یا خوشگوار سمجھنا یا پانا۔ المَرْأةُ: مَرَأ کا اسم مرہ۔ ایک بار کھانا، کھانے کا خوشگوار ہونا۔ جمع نساء و نسوة (من غیر لفظه) عورت۔ المَرِیْءُ جمع مُرُوْءٌ و اَمْرِئَةٌ: غذا جو ہضم ہو جاتا ہے۔ طعام مریءٌ: خوشگوار کھانا۔ کلأٌ مریءٌ: تازہ گھاس پات جو جلدی ہضم ہو جائے۔ هنيئًا مريئًا: خدا کرے یہ خوراک یا مشروب تم کو مفید ہو۔ المَرِیْئَةُ: مَرِیْء کا مؤنث۔ ارضٌ مریئةٌ: خوشگوار آب وہوا والی زمین۔

۲۔ مَرُؤَ ۔مُرُوْءَةً: مروت والا ہونا۔ تَمَرَّأَ: مروت والا بننا۔ مروت والا ہونا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ یتمرّأ بنا: فلاں شخص ہمیں حقیر اور عیب سے منسوب کرکے جواں مردی کا طلب گار ہے۔ المَرْءُ (میم کی پیش، زبر اور زیر کے ساتھ) انسان جمع رجال (من غیر لفظه) مرؤون و مرأة مرة بھی جمع میں آیا ہے۔ بعض نے کہا ہے مرئی۔ المرءُ و امرأ جمع نساء و نسوة (من غیر لفظها) انسان ہمزہ وصل، ر کی حرکت آخری لفظ کی حرکت کے ساتھ: جاء امرؤ و رأیت امرأ و مررت بامرئ بہرحال ان و پیش یا زبر دیا جاتا ہے۔ تصغیر میں الف وصل ساقط ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں مُرَیْءٌ و مُرَیْئَةٌ امرئ پر الف لام تعریف کا داخل نہیں ہوتا، کبھی کبھار امرأة پر داخل ہو جاتا ہے۔ المُرُوْئَةُ: نخوت، جواں مردی، جواں مردانہ صفات مُرُوَّة بھی کہا جاتا ہے۔ المَرِیءُ: بہادر، دلیر شجاع، شریف۔

○ مَرَأ و مَرِیءَ ۔ و مَرُؤَ ۔ مَرَاءَةً: (کھانے کا) خوشگوار، صحت بخش، صحت افزاء، مزیدار، خوش ذائقہ، لذیذ اور پسندیدہ ہونا۔ مَرُؤَ ۔مُرُوْءَةً: مردانہ ہونا، مردمیت ہونا۔ مَرُؤَ ۔مَرَاءَةً: (آب وہوا کا) صحت افزا، خوش گوار، فرحت افزا یا صحت بخش ہونا۔ اِسْتَمْرَأَ ہ: خوراک کو خوش گوار، صحت مند، صحت افزاء اور مزیدار پانا۔ ۔۔ہ: سے لطف اندوز ہونا، کو مزیدار بنانا، چٹ پٹا بنانا، مرغوب بنانا ۔۔ہ: کو ہضم کر سکنا، کو پسند آنا، کو پسند کرنا، سے مسرت، لطف حاصل کرنا۔ اِمْرُءٌ و اِمْرَأ و اِمْرُؤ (ال کے ساتھ) ایک مرد، شخص، انسان۔ یظن المَرْءُ: کوئی خیال کرے گا۔ اِمْرَأَة: عورت، بیوی۔ المرأة المُسَلْسَلَة: ذات الکرسی ستاروں کا جھرمٹ (Andromeda)۔ مُرُوْءَة و مُرُوَّة: مردانگی کا معیار، جواں مردی، شجاعت، بہادری، دلیری، بانکپن، دلاوری، صنف نازک کے لئے جانبازی، عالی ہمتی، فراخدلی، فیاضی، عزت نفس۔ مَرِیءٌ: جواں مردانہ، مردانہ، مردصفت، صحت بخش، صحت افزا، مہ اخلاق، خوشگوار، فرحت افزا، تندرست۔ هَنِیْئًا مَرِیْئًا: اللہ کرے یہ تمہیں بہت فائدہ مند ہو، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس (خوراک) سے لطف اندوز ہوگے۔ مَرِیءٌ جمع اَمْرِئَة و مُرُوْءٌ: زخرا، حلقوم، گلا۔ مَرَّاکُش و مَرَّاکِش: مراکش (مغربی مراکش میں ایک شہر۔ (ملک) مراکش۔ مراکشی: صفت و اسم۔

مرت: مَرَتَ ۔مَرْتًا الشیءَ: کو نرم کرنا۔ المَرْتُ (مص) جمع اَمْرَات و مُرُوْت و اَمَارِیت: سبزہ سے خالی بیابان۔ کہا جاتا ہے: ارضٌ مَرْتٌ: بے برگ وگیاہ زمین۔ رجلٌ مَرْتٌ: وہ شخص جس کے ابروؤں پر بال نہ ہوں۔ مرتُ الجسد: جسم پر بالوں سے خالی۔ غلام مرتُ العذار: لڑکا جس کے رخساروں پر سبزہ نہ آیا ہو۔ المَرُوْت: بے برگ و گیاہ بیابان۔ المَرُوْتَة: زمین کی غیر زرخیزی۔ ارض مَمْرُوْتَة: بنجر زمین جس پر سبزہ نہ ہو۔

مرث: مَرَثَ ۔مَرْثًا: بھگونا۔ ۔۔الشیءَ: کو نرم کرنا۔ ۔۔الصبیُّ اِصبعَهُ: بچہ کا انگلیاں چبانا۔ ۔۔ثدیَ امه: ماں کے پستان چوسنا۔ ۔۔الرجلُ الرجلَ: مرد کا مرد کو مارنا۔ ۔۔الدواءَ فی الماءِ: کو پانی میں دوا بھگونا۔ ۔۔التمرَ بیده فی الماء: کھجوروں کو تر کرنا، گیلا کرنا۔ مَرِثَ ۔مَرَثًا علی الخصام: جھگڑے میں صابر و بردبار ہونا صفت مَرِث و مِمْرَث جمع مَمَارِث۔ مَرَّثَ الثریدَ: ثرید کا چورا کرنا، ریزہ ریزہ کرنا۔

○ مَرَثَ ۔مَرْثًا ه: (اپنی انگلیاں) چوسنا، کاٹنا ۔۔ه: کو نرم کرنا، مسلنا، بھینا [?]، کچلنا، دبانا، نچوڑنا، کو ابال کر کچلنا۔ ۔۔ه: کو پانی میں بھگو کر نرم کرنا، کو تر کرنا۔

مرج: ۱۔ مَرَجَ ۔مَرْجًا الدابةَ: جانور کو چرنے کیلئے چراگاہ میں چھوڑنا۔ ۔۔ت الدابةُ: جانور کا چراگاہ میں چرنا۔ کہا جاتا ہے: مرج لسانهُ فی اعراض الناس: اس نے اپنی زبان لوگوں کی مذمت اور غیبت کے لئے کھلی چھوڑ دی ہے۔ ۔۔الکذبَ: جھوٹ بولنے میں زبان کو کھلی چھوڑ دینا۔ ۔۔السلطانُ رعیتَهُ: سلطان کا اپنی رعایا کو دنگا فساد کرنے دینا۔ اَمْرَجَ الدابةَ: جانور کو جہاں چاہے چرنے کے لئے چھوڑ دینا۔ المَرْج (مص) جمع مُرُوْج: چراگاہ۔

۲۔ مَرَجَ ۔مَرْجًا الامرَ: کام کو ضائع کرنا، اچھی طرح نہ کرنا۔ ۔۔الشیءَ بالشیءِ: کو سے ملانا۔ مَرِجَ ۔مَرَجًا الخاتمُ فی الاصبع: انگوٹھی کا انگلی میں ڈھیلا ہونا۔ ۔۔الامرُ والعهدُ والامانة والدینُ: کام، عہد، امانت اور دین کا خراب ہونا، فاسد ہونا۔ اَمْرَجَ الشیءَ: چیز کو ملانا۔ ۔۔العهدَ: عہد پورا نہ کرنا۔ المَارِج (فا): بہت بھڑکنے والا شعلہ۔ المَرَّاج: باتوں میں اضافہ کرنے اور جھوٹ بولنے والا۔ المَرِیج جمع اَمْرِجة: سفید چھوٹی ہڈی جو سینگ کے درمیان ہوتی ہے۔ امرٌ مریجٌ: گڑبڑ اور بے ترتیب کام۔ سهمٌ مریجٌ: بلنے والا تیر۔ غصنٌ مریجٌ: الجھی مڑی ہوئی شاخ۔ المِمراج: بڈھنگا، نااہل۔

۳۔ اَمْرَجَت الناقةُ: اونٹنی کا ناکمل بچہ گرانا۔ ناقة مِمراج: ناکمل بچے گرانے کی عادی اونٹنی۔

۴۔ المَرْجان واحد مَرْجانة: چھوٹے موتی، مونگا۔ ربیع میں کھلنے والے چھوٹے پھولوں والا ایک پودا۔ ۔۔الیابانی: بیضوی شکل کے پتوں والا ایک پودا، سرخ ڈنڈیاں جو سمندر سے ہتھیلی کی انگلیوں کی طرح پھوٹتی ہیں۔

○ مَرْج جمع مُرُوْج: گھاس سے ڈھکا ہوا میدان۔ چراگاہ، مرغزار، سبزہ زار۔ هَرْج و مَرْج: افراتفری، الجھن، ابتری، پراگندگی، بے ترتیبی، ہنگامہ، شورش، بلوہ، دنگا، بے چینی، اضطراب، ہلچل۔ مَرَج: انتشار، پراگندگی، بے ترتیبی، ابتری، بدنظمی، ہنگامہ، فتنہ فساد، افراتفری، الجھن، شورش، بلوہ۔ مَرْجان و مُرجان (اسم جمع واحد مرجانة) چھوٹے موتی، مونگے۔ سَمَك مَرْجان: چین کی سرخ مچھلی جو نمائش کے لئے پالی جاتی ہے۔ مرجانی: مونگے کا، مونگے جیسا، مونگے جیسا سرخ۔ جزیرہ مرجانیة: مونگے کا جزیرہ (atoll)۔ شعاب مرجانیة: سمندر میں مونگے کی چٹانوں کا سلسلہ۔

مرح: ۱۔ مَرِحَ ۔مَرَحًا الرجلُ: آدمی کا بہت خوش ہو کر اترانا، ناز سے چلنا صفت مَرِح جمع مَرْحی و مَراحی و مِرِّیح ج مِرِّیحون۔ کہا جاتا ہے۔ لا تَمْرَحْ بِعِرضك: اپنی شہرت کے متعلق اشارۃً کچھ نہ کہنا۔ اَمْرَحَهُ: کو خوش کرنا۔ ۔۔الکلأُ الفرسَ: گھاس کا گھوڑے میں جان ڈال دینا۔ المِمراح: زندہ دلی، خوش طبعی، ترنگ، چہل، ریل پیل۔ مَرْحَی: کلمہ تعجب ہے۔ جو تیراندازی کی کامیابی پر بولا جاتا ہے۔ اس طرح مَرْحَیًّا بھی۔ المِرْحَة: لوع۔ المَرُوْح: شراب۔ چست گھوڑا۔ قوسٌ مَرُوْح: کمان جو تیر کو اچھی طرح چھوڑے۔ هو التمراحة: بہت خوش وشادمان۔ کہا جاتا ہے۔ هو تِلِعابةٌ تِمراحة: وہ بہت کھیلنے، مذاق کرنے اور چستی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والا ہے۔ المِمْراح و المِمرح: چست وخوش۔
۲۔ مَرِحَ ـمَرَحاً و مَرَحاناً السحابُ: بادل کا بارش برسانا۔۔ الزرعُ: کھیتی میں بالیاں آنا، خوشے نکلنا۔۔ ت عینُہ: آنکھ کا خراب ہونا اور پانی بہنا۔۔ العینُ بمانها و قذاها: آنکھ کا پانی بہانا اور کیچڑ پھینکنا۔ مَرَّحَ المزادَۃَ الجدیدۃَ: نئی مشک کو پانی سے بھرنا، تاکہ درز بند ہوجائے۔۔ البُرَّ: گیہوں صاف کرنا۔ المِمْراح: بہت آنسوؤں والی آنکھ، زمین جہاں جلد پودے اگیں۔
۳۔ مَرَّحَ المهرَ: بچھڑے کو سدھانا۔ المُمَرَّح (مفع)۔ کرمٌ مُمَرَّحٌ: ستون پر سے لٹکتی ہوئی انگور کی بیل۔
۴۔ مرَّحَ الرحلَ: بڑی جنگ میں شامل ہونا۔ المَرْحَی: بڑی جنگ۔ (مادہ رحی)۔
۵۔ مَرَّحَ الجلدَ: چمڑے پر تیل لگانا۔ کہتے ہیں: مَرحت المراۃُ البیتَ تمرَحُہُ مَرحاً: عورت نے اپنے گھر کی زمین کی مٹی سے لپائی کی۔
۶۔ المِرحَة: خشک انجیروں وغیرہ کے گودام۔
۷۔ مَرْحَبَ فلاناً و بہ: کو مرحبا کہنا۔ خوش آمدید کہنا۔۔ اللّٰہُ فلاناً: اللہ کا کسی کو وسعت و فراخی میں رکھنا۔۔ ہٗ: کو وسعت کی طرف بلانا۔
○ مَرِحَ ـمَرَحاً: مسرور، خوش، شاداں، خوش وخرم، شاداں وفرحان، شاد، زندہ دل، خوش مزاج، بہت خوش، خوش دل، زندہ دلانہ، جوشیلا، شگفتہ خاطر یا ہشاش بشاش ہونا، محظوظ ہونا، باغ باغ ہونا، خوشی سے پھولنا، پھولے نہ سمانا، شادیانے بجانا، فخر کرنا، اترانا۔ سَرِحَ و مَرِحَ: من مانی کرنا، ظالمانہ طرز عمل اختیار کرنا، دندناتا پھرنا۔ مَرْحَی: شاباش! واہ وا، بہت اچھے، مرحبا، بہت خوب۔ مَرْحَی ب: کو شاباش۔ مِمْراح: خوش مزاج، خوش طبع، خوش دل، خوش وخرم، زندہ دل، ہنس مکھ، زندہ دل شخص۔ مَرْحَبَ ہٗ: کو خوش آمدید کہنا۔
مرخ: ۱۔ مَرَخَ ـمَرْخاً جسدَہ بالدھن: کے جسم پر تیل ملنا۔ مَرِخَ ـمَرَخاً العرفجُ: عرفج درخت کا لمبی شاخوں اور اچھے پتوں والا ہونا۔ صفت مَرِخ۔ مَرَّخَ ہٗ: کو تیل ملنا۔۔ و أَمْرَخَ العجینَ: آٹے کو پانی سے پتلا کرنا۔ تَمَرَّخَ بالدھن: خود پر تیل کی مالش کرنا۔ المَارِخ: فا۔ ماءٌ مارِخٌ: جاری یا رواں پانی، بہتا ہوا پانی۔ رجُلٌ مارِخ: پانی بہانے والا۔ المَرْخ (مص): نرم پتلا درخت۔ المَرِخ: بہت تیل لگانے والا۔۔ من الشجر: نرم و پتلا درخت۔

المَرُوخ: مرہم۔ المِرِّیخ: بہت تیل لگانے والا۔۔ من الشجر: نرم و پتلا درخت۔
۲۔ مَرَخَ ـمَرْخاً: مذاق کرنا۔
۳۔ المَرِخ: احمق۔ المُرَّخ: دُم۔ المَرِیخ جمع أَمْرِخۃ: سینگ کے اندر کا چھوٹا سینگ۔ المِرِّیخ: احمق۔ (فلك): ایک سیارہ ستارہ جو سورج سے قریب ترین ہے۔ ثورٌ أَمْرَخ: سرخ و سفید نقطوں یا پردھبوں والا بیل۔ المَرْخاء: چستی کی وجہ سے تیز رواونٹنی۔
○ مَرَخَ ـمَرْخاً ہ: (جسم) کو تیل ملنا، کی مالش کرنا، سہلانا، پر لیپ کرنا۔ مَرَّخَ ہ: بمعنی مَرَخَ۔ تَمَرَّخَ: اپنے آپ کو تیل لگانا، تیل ملنا، تیل کی مالش کرنا، مرہم لگانا۔ مَرِخ: نرم، ڈھیلا، پلپلا، تھل تھل، جھریاں پڑا ہوا۔ ڈھیلا ڈھالا، پرشکن، پولا۔ مَرُوخ: تلا، ضماد، مرہم تیل مالش کا روغن یا دواء، لیپ، سکون بخش دواء۔
مَرد: ۱۔ مَرَدَ ـمَرْداً الغصنَ: ٹہنی کی چھال اتارنا۔۔ الشیءَ: کو نرم کرنا، صاف کرنا، کاٹنا۔۔ فلاناً: کو بے عزت کرنا۔۔ مُرُوداً: نافرمان اور سرکش ہونا۔ ہمسروں سے آگے نکلنا۔۔ علی النفاق و نحوہ: منافقت پر جمے رہنا۔۔ مَرَداً و مُرُودۃً الغلامُ: لڑکے کا دیر تک بے ریش رہنا۔ مَرُدَ ـمَرادۃً و مُرُودۃً: نافرمان اور سرکش ہونا۔ ہمسروں سے آگے نکلنا۔ مَرَّدَ تَمْرِیداً و تَمْراداً الغُصنَ: ٹہنی کے پتے اتار دینا۔۔ البناءَ: عمارت کو ہموار و چکنا کرنا۔ لمبی کرنا۔ بناءٌ مُمَرَّدٌ: چکنی اور لمبی عمارت۔ تَمَرَّدَ: دیر تک بے ریش رہنا، سرکش ہونا۔۔ علی الناس: لوگوں سے سرکشی کرنا۔۔ الرجُلُ: ہمسروں سے آگے نکل جانا۔ تکبر کرنا۔ المارِد (فا) جمع مَرَدۃ و مارِدُون و مُرَّاد: سرکش، بلند۔ بناءٌ مارِدٌ: بلند عمارت۔ المَرَاد و المَرَّاد جمع مَرَادِید: گردن۔ المَرِید جمع مُرَداء: سرکش، خبیث، شریر۔ المِرِّید: سرکش۔ الأَمْرَد مونث مَرْداء جمع مُرْد: بے ریش جوان۔ فرسٌ أَمْرَد: گھوڑے جس کے ٹخنوں پر بال نہ ہوں۔ مُرْدٌ علی جُرْد: ٹخنوں پر بالوں سے خالی گھوڑوں پر بے ریش جوان۔ المَرْداء جمع مَرَادٍ: بے پتوں کا درخت، بنجر ریت، بنجر زمین۔
۲۔ مَرَدَ ـمَرْداً الشیءَ فی الماء: کو پانی ملنا۔۔ الصبیُّ ثدیَ اُمِّہ: بچہ کا پستان کو ہاتھوں سے چوسنا۔۔ الدابّۃَ: جانور کو زور سے ہانکنا۔
۳۔ مَرَدَ ـمَرْداً المَلّاحُ السفینۃَ: ملاح کا کشتی کو چپوؤں سے کھینا۔ المُرْدِی جمع مَرَادِی ...

۴۔ مَرَدَ ـمَرَداً و مُرُودۃً الرجُلُ: دودھ میں بھگوئی ہوئی کھجوریں کھانے کا عادی ہونا۔ المَرِید: دودھ میں بھگو کر نرم کی ہوئی کھجور۔
۵۔ مَرَّدَ للحَمام تِمْراداً: کبوتروں کے لئے گھونسلا بنانا۔ التِمراد جمع تَمَارِید: کبوتروں کا گھونسلا۔
۶۔ تَمَرَّدَ الرجُلُ: سرکشوں کے پاس آنا۔
۷۔ المَرْدَقُوش (ن): ایک خوشبودار باریک پتوں والی بوٹی۔ زعفران (فارسی لفظ)۔
○ مَرَدَ ـمُرُوداً و مَرُدَ ـمَرادۃً و مُرُودۃً: سرکش ہونا، نافرمان ہونا، منہ زور ہونا۔۔ علی۔ کے خلاف بغاوت کرنا، ہتھیار اٹھانا، سے برگشتہ ہونا۔ مَرَّدَ ہ: درخت کے پتے اتارنا۔۔ ہ: عمارت پر پلستر کرنا، کہگل کرنا، گارے کا پلستر کرنا، مسالہ چڑھانا، تہہ چڑھانا۔ تَمَرَّدَ: سرکش ہونا، نافرمان ہونا۔۔ علی: کے خلاف بغاوت کرنا، ہتھیار اٹھانا، سے برگشتہ ہونا۔۔: گستاخ، بے ادب، سرکش یا مغرور ہونا، متکبر ہونا، دیدہ دلیر ہونا، زبردست۔ دبنگ یا تحکم پسند ہونا۔ مُرْدِی جمع مَرَادِی: کشتی کھینے کا بانس، چپو۔ مَرَاد و مَرَّاد جمع مَرَارِید: گردن، گدی۔ مَرِید جمع مُرَداء: سرکش، نافرمان، منہ زور۔ تِمراد جمع تَمارِید: کابک۔ اَمْرَد م مرداء جمع مُرْد: بے ریش۔ پتوں کے بغیر درخت، خشک، مرجھایا ہوا۔ تَمَرُّد: سرکشی، نافرمانی، عدول حکمی، بغاوت، حکومت کے خلاف باغیانہ تحریک، غدر۔ مارِد جمع مارِدُون و مَرَدۃ و مُرَّاد: سرکش، نافرمان، نافرمانی پر مبنی، سرکشانہ متمردانہ، باغی، آسیب، بھوت پریت، بدروح، خبیث روح، شریر، بدذات، خونخوار، ظالم، جن، دیو، عفریت، بہت بڑا، بہت طاقت ور۔ مُتَمَرِّد: سرکش، نافرمان، باغی، منہ زور۔
مرز: ۱۔ مَرَزَ ـمَرْزاً ہٗ: کو کاٹنا، کی چٹکی لینا۔۔ الرجُلَ: کو ہاتھ سے مارنا۔ مَارَزَ مُمَارَزَۃً ہٗ: کی مشق کرنا، کی کوشش کرنا۔
۲۔ مَرَزَ ـمَرْزاً ہٗ: کو کاٹنا، قطع کرنا۔۔ الرجُلَ: پر عیب لگانا۔۔ الشیءَ: کو کاٹنا۔ اِمْتَرَزَ عِرضَہٗ: پر عیب لگانا۔ شریکَہٗ: شریک کا مال اپنے مال سے علیحدہ کرنا۔۔ من مالِہ مَرْزَۃً: کے مال سے کچھ لے لینا۔ المَرْزَۃ و المِرْزَۃ: ٹکڑا۔ عِرضٌ مَرِیزٌ: بدنامی۔
۳۔ المَرْزَتان: کان کی لو سے اوپر کا ابھرا ہوا حصہ۔ المُرزۃ (ح): ایک شکاری پرندہ جو چوہے اور خرگوش کا شکار کرتا ہے۔ اسے عقیب بھی کہتے ہیں۔
۴۔ المَرْزُبان جمع مَرَازِبَۃ عند الفرس: سردار۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

المَرزُبة عندهم: سرداری۔

۵۔ المَرزَنجُوش: ایک بوٹی کا نام (فارسی لفظ)۔

◌ مَرزُبان جمع مَرازِبَة: خلیفہ، نائب، صوبائی گورنر، قدیم ایرانی صوبیدار، لٹیرا اور جابر صوبہ دار (satrap)۔

مرس: ا۔ مَرَسَ ـُـ مَرساً الدواءَ: دوا کو پانی میں بھگو کر ملنا تا کہ اس کے اجزا پانی میں تحلیل ہو جائیں۔ ـــ الصبی اصبعَهٗ: بچے کا انگلیاں منہ میں ڈال کر چوسنا۔ ـــ یدَہٗ بالمندیل: ہاتھ رومال سے یا تولیہ سے پونچھنا۔ مَرِسَ ـَـ مَرَساً الرجلُ: کام سلجھانے میں تجربہ کار ہونا۔ مَارَسَ مِراساً و مُمارسةً الامرَ: معاملہ سے نبٹنا، پر کامل توجہ کرنا، میں محنت اور کوشش کرنا، کو شروع کرنا۔ تَمرَّسَ بالشيءِ: سے رگڑنا، کو مارنا ـــ بالطیب: خوشبو میں لتھڑنا۔ ـــ بالرجلِ: ایذا دینے کے لئے، اس کے درپے ہونا۔ ـــ بدِینِهٖ: دین سے کھیلنا۔ ـــ بالنوائب و الخصومات: حوادث اور جھگڑوں کا خوگر و عادی ہونا۔ تَمَارَسَ القومُ فی الحرب: جنگ میں ایک دوسرے کو مارنا۔ اِمتَرَسَ بالشيءِ: سے رگڑنا۔ ـــ الخطباءُ و الألسُنُ فی المخصومة: جھگڑوں میں خطیبوں اور زبانوں کا کٹ حجتی کرنا۔ المَرَس (مص): لگاتار چال۔ المَرِس جمع أمْرَاس: کام میں سخت محنتی، جنگ آزمودہ۔ کہا جاتا ہے: هم علی مَرِسٍ واحدٍ: وہ ایک ہی اخلاق کے ہیں۔ المَرَسَة جمع مَرَس و جمع أمْراس: رسی۔ أمْراسُ المرکب: سواری کی رسیاں۔ المِراس و المَراسة: شدت، قوت۔ کہا جاتا ہے: هو سهلُ المِراس: وہ نرم مزاج ہے۔ اس کے مقابلہ میں کہتے ہیں: صعبُ المِراس۔ المَرَّاس: بہت سختی والا۔ کہا جاتا ہے: لیلةٌ مَرَّاسةٌ: سخت تھکا دینے والی رات۔ المَرِیس: پانی میں بھگوئی ہوئی کھجوریں وغیرہ۔

۲۔ مَرَسَ ـُـ مَرساً حبلُ البکرة: اتر کر چرخ کی رسی کا ایک طرف سے گر جانا۔ مَرِسَ ـَـ مَرَساً ت البکرةُ: رسی کا چرخی اور اِدھر اُدھر کی لکڑی کے درمیان پھنسا ہونا۔ مَرِسَت حِبالُه: اس کے معاملات الجھ گئے۔ اَمْرَسَ حبلَ البَکرةِ: چرخی کی رسی کو دوبارہ اس پر چڑھانا۔ المَرِس جمع أمْرَاس: چرخی سے اتری ہوئی رسی۔ المَرُوس: چرخی جس سے رسی ایک طرف گر گئی ہو۔

۳۔ المَرسَنْك: جلا ہوا رانگا جو بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے: فلانٌ اثقل من المَرسَنك: فلاں مرسنگ سے بھاری ہے۔

۴۔ المَارِستَان و المَارَستان جمع مَارِستَانات: ہسپتال، شفاخانہ۔

◌ مَرَسَ ـُـ مَرساً (ہ): کو (پانی میں) بھگونا، بھگو کر نرم کرنا۔ مَارَسَ ہ: کی مشق کرنا، کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا، کو حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنا، کو کرنا (جیسے وکالت کرنا، ڈاکٹری کرنا وغیرہ) کا کام کرنا، کو (حکم کو) بجا لانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کی تکمیل کرنا (وسائل کو) کام میں لانا، میں محنت کرنا، کی دھن میں لگے رہنا، پر کامل توجہ کرنا، میں حصہ لینا، میں شریک ہونا، کو اختیار کرنا، کو آزما کر دیکھنا، (کرنے) کی کوشش کرنا۔ تَمَرَّسَ ب: سے رگڑ کھانا، پر ملنا، سے تکلیف اٹھانا، سے سخت اختلاف ہونا، (کوئی عہدہ) چلانا، کوئی پیشہ اختیار کرنا، کے ساتھ کام کرنا، سے عملی رابطہ میں ہونا، سے متعلق ہونا، سے وابستہ ہونا، سے فی الواقع متعلق ہونا، سے نبٹنا۔ تَمارَسَ: ایک دوسرے سے لڑنا، جدوجہد کرنا، سے مسابقت کی سعی کرنا یا سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ مَرِس: کھیل جو تمام چالیں چل کر جیتا جائے۔ مَرِس جمع أمراس: آزمودہ کار، پختہ کار، تجربہ کار، مشّاق۔ مَرَسَة جمع أمراس: رسی، ڈوری، طناب، تار، مضبوط رسا، موٹا رسہ (جہاز کا)۔ مِراس و مَراسة: طاقت، قوت۔ سهل المراس: اثر پذیر، تاثر پذیر، قابو میں آ جانے والا، آسان، جو سنبھالا جا سکے، فرماں پذیر، مطیع، اطاعت شعار، حسب ہدایت (یا مرضی کے مطابق) کام کرنے والا۔ شَدِیدُ المراس یا صَعْبُ المراس: ناثر پذیر، قابو میں نہ آنے والا، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا، اودھم مچانے والا، سرکش۔ صعوبةُ المراس: خودسری، سرکشی، آسانی سے قابو میں نہ آ سکنا، بغاوت، انحراف، تمرد، سرتابی، ضد، ہٹ۔ مَریسة: بیئر (شراب) کی ایک قسم۔ مَریسی: جنوب کی گرم ہوا۔

مرش: مَرَشَ ـُـ مَرشاً وجهَهٗ: کا چہرہ نوچنا، کھرچنا، پر منہ سے کاٹنا، کی چٹکی بھرنا۔ ـــ ہٗ: کو گفتگو سے ایذا دینا۔ ـــ الماءُ: پانی بہنا۔ ـــ الحائطَ عند العامة: دیوار کو بجھے ہوئے چونے سے لیپنا۔ عوام اسے طَرَشَ الحائط بھی کہتے ہیں۔ اسم مرش اور طرش ہے۔ اِمتَرَشَ الشيءَ: کو اچک لینا، کھینچنا، جھپٹ لینا، اکٹھا کرنا، ـــ لعیاله: اہل و عیال کے لئے کمانا۔ المَرْش (مص) جمع مُرُوش و أمْرَاش: بارش سے صاف کی ہوئی زمین، بارش سے جلد بہنے والی زمین، دامن کوہ جس سے پانی بہے۔ الأمْرَش م مَرشاء جمع مُرْش: بہت شریر۔ المَرْشاء: ہر کھٹکھنا جانور، طرح طرح کی گھاس جڑی بوٹیوں اور پودوں والی زمین۔ المَرَّاش: بہت کمانے والا۔ ـــ عند العامة: دیواروں پر چونا کرنے والا۔ اسے طرّاش بھی کہتے ہیں۔ التَمرِیش: تھوڑی بارش۔

◌ مَرسِیلیَا: (جنوب مشرقی فرانس کی ایک بندرگاہ کا نام) مَرسِین: مہندی، حنا (myrtle)۔ مَرَش ـُـ مَرشاً ہ: کو نوچنا، کھرچنا، چھیلنا، پر ناخن مارنا، پنجہ مارنا، خراش ڈالنا۔ مَرشال: (فیلڈ) مارشل (field) marshal)۔

مرص: مَرَصَ ـُـ مَرصاً الثدیَ و نحوَہٗ: پستان انگلیوں سے دبانا۔ مَرِصَ ـَـ مَرَصاً الرجلُ: سبقت کرنا، آگے نکلنا۔ تَمَرَّصَ القشرُ عن الشعیر و نحوہ: جو وغیرہ سے چھلکا اترنا۔ المَرُوص: تیز رفتار اونٹنی۔

مرض: ا۔ مَرِضَ ـَـ مَرَضاً و مَرْضاً: بیمار ہو جانا۔ صفت: مَرِض و مَرِیض و مَارِض۔ مَرَّضَ ہٗ: کا علاج کرنا، تیمارداری کرنا، کو مریض بنانا۔ ـــ فی الامر: کام میں سستی و کاہلی کرنا، کو اچھی طرح نہ کرنا۔ أمْرَضَ: مریض ہونا۔ امْرَضَ اللّٰہُ فلاناً: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیمار کرنا۔ ـــ ہٗ: کو مریض پانا۔ کہا جاتا ہے: أتَیتُ زیداً فأمرضتُهٗ: میں زید کے پاس آیا تو اسے بیمار پایا۔ ـــ اجفانَهٗ: پلکیں نیچی کرنا۔ ـــ القومُ: بیمار جانوروں والا ہونا۔ تَمَرَّضَ: کام میں کمزور ہونا۔ تَمَارَضَ: بیمار بننا، بیماری کا بہانہ کرنا۔ ـــ فی امرہ: کام میں کمزور ہونا۔ المَرَض و المَرْض جمع أمْرَاض: بیماری، طبیعت کی خرابی۔ المَرِیض جمع مِرَاض: بیمار، کہا جاتا ہے: بهٖ مَرْضَةٌ شدیدةٌ: وہ سخت بیمار ہے۔ المَرِیض جمع مَرضَی: بیمار علیل کہا جاتا ہے: بَدَنٌ مَرِیض: بیمار بدن۔ قلبٌ مریض: دین کی کمی والا۔ رایٌ مریض: کمزور رائے۔ عینٌ مَرِیضَة جمع مِراض و مرضَی: کمزور آنکھ۔ ریحٌ مریضةٌ: کمزور و سست ہوا۔ شمسٌ مریضةٌ: سورج جس کی روشنی بادل وغیرہ کی وجہ سے کمزور ہو۔ لیلةٌ مریضةٌ: وہ رات جس میں ستارے نظر نہ آئیں۔ ارضٌ مریضةٌ: بسنے والوں سے تنگ زمین۔ بہت فتنہ و فساد اور جنگ و جدل والی زمین، چٹیل زمین۔ المِمرَاض: بہت بیماریوں والا۔ المُمَرِّض م مُمَرِّضة ف: مرد نرس۔ ہسپتال کا خادم، ایمبولنس کا آدمی، فسٹ ایڈ والا، ڈاکٹر کا مددگار۔ المُمَرِّضة: ہسپتالوں وغیرہ کی نرس۔ المَمرُوض و المُتَمَرِّض: بیمار۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

٢-مَرَضَ البُرَّ: گیہوں بکھیرنا۔
٣-أَمْرَضَ الرجلُ: حاجت براری کے قریب ہونا۔
(ن) مَرِضَ ـَ مَرَضاً: بیمار ہونا یا ہو جانا، بیمار پڑنا۔مَرَّضَ ہٗ: کو بیمار کر دینا، کی تیمارداری کرنا۔أَمْرَضَ ہٗ: کو بیمار کر دینا۔تَمَرَّضَ: کمزور ہونا، علیل ہونا، بیمار ہونا۔تَمَارَضَ: بیمار بننا، بیماری کا بہانہ کرنا، کام سے بچنے کے لئے جھوٹ موٹ بیمار بننا۔مَرَضُ البياض الدقيقي: پھپھوندی۔مرض عَصَبي: اعصابی بیماری۔مرض عقلي: دماغی بیماری۔مرض فَحْمِي: پت روگ۔پتوں کو جھلس دینا۔مرض فرنجي: آتشک (syphilis)۔مرض مُعْدٍ: چھوت والی، متعدی اڑتی یا لگنی بیماری۔امراض باطنيه: اندرونی بیماریاں۔امراض سِرِّيَة: جماعی امراض۔امراض صدريه: سینے کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں۔مَرَضِي: بیماری سے متعلق، غیر صحت مندانہ، مرضیاتی۔مريض نفسي: نفسیاتی مریض۔تمريض: تیمارداری، نرسنگ۔

مرط: ١-مَرَطَ ـُ مَرْطاً الشَّعْرَ او الريشَ: بال یا پر نوچنا۔ــ بسلحه: پاخانہ کرنا۔ــت المرأةُ بولدها: بچہ جننا۔مَرِطَ ـَ مَرَطاً: بے بال یا کم بالوں والا یا نوچے ہوئے بالوں والا ہونا۔مَرَّطَ الشعرَ او الريشَ: بال یا پر نوچنا۔ــ بسلحه: پاخانہ کرنا۔مَارَطَ مُمَارَطَةً ہٗ: ایک دوسرے کے بال نوچنا۔أَمْرَطَ الشَّعْرُ: بالوں کا نوچے جانے کے قریب ہونا۔ــت الناقةُ وَلَدَها: اونٹنی کا نامکمل بچہ گرانا، اونٹنی کا بچہ گرانا جب ابھی اس کے بال بھی نہ اگے ہوں۔ــت النخلةُ: درخت خرما کا کچی کھجوریں گرانا۔تَمَرَّطَ الشعرُ: بالوں کا گرنا۔ــ السهمُ: تیر کا پروں سے خالی ہونا۔اِمْتَرَطَ الشيءَ: کو جھپٹ لینا۔اِمَّرَطَ و انْمَرَطَ الشعرُ: بالوں کا گرنا۔المُرْطُ جمع أمراط و مِراط من السهم: بے پر تیر۔کہا جاتا ہے سهمٌ مُرْطٌ: بے پر تیر۔المُراطة: نوچتے ہوئے یا کنگھی کرتے ہوئے گرنے والے بال۔الأمرط م مرطاء جمع مُرْط: جسم بھنوں اور آنکھوں پر کم بالوں والا، نوچے ہوئے بالوں والا بھیڑیا، چور۔سهمٌ أمرطُ: بے پر تیر۔شجرةٌ مَرْطاء: بے پتوں کا درخت۔سهمٌ مَريطٌ و مِراط: بے پر تیر۔
٢-مَرَطَ ـُ مَرْطاً و مُرُوطاً الرجلُ: جلدی کرنا۔أَمْرَطَت الناقةُ: اونٹنی کا تیز چلنا اور آگے بڑھنا۔فرسٌ مَرَطى: تیز رو گھوڑا۔المُرُوط: تیز چلنا اور دوڑنا۔

المِمْرَطَة جمع مَمارِط من النوق: تیز رفتار اونٹنی۔
٣-مَرَطَ ـُ مَرْطاً و مُرُوطاً فلاناً: کو پناہ دینا۔مَرَطاً و مَرَّطَ الشيءَ: کو جمع کرنا۔اکٹھا کرنا۔
٤-مَرَّطَ الثوبَ: آستین چڑھانا۔٥-المِرْط جمع مُرُوط: ہران سلا کپڑا۔اونی یا ریشمی چادر۔
(ن) مَرِطَ ـَ مَرَطاً ہٗ: (بال) نوچنا، اکھیڑنا، کھینچنا۔مَرَّطَ ہٗ بمعنی مَرَطَ ہٗ۔تَمَرَّطَ: بالوں کا گرنا۔مَرِيط و أَمْرَطُ م مَرْطاء جمع مُرْط: بے بال۔

مرع: ١-مَرَعَ ـَ مَرْعاً رأسَه بالدهن: سر پر تیل ملنا۔ــ شَعْرَہٗ: بالوں میں کنگھی کرنا۔أَمْرَعَ رأسَه بالدهن: سر پر خوب تیل ملنا۔المُرْعة و المِراع: چربی۔
٢-مَرِعَ ـَ مَرَعاً الرجلُ: آدمی کا خوش حال ہونا۔آسودہ ہونا۔ــ المكانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔مَرُعَ ـُ مَراعَةً الرجلُ: آدمی کا خوش حال و آسودہ حال ہونا۔ــ المكان: جگہ کا سرسبز ہونا۔أَمْرَعَ المكانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔ــ القومُ: لوگوں کا سرسبز جگہ پانا۔ضرب المثل: أَمْرَعْتَ فانْزِل: تو نے سرسبز جگہ پالی ہے یہیں اتر پڑ۔یعنی تم نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے۔تَمَرَّعَ: گھاس طلب کرنا۔المَرْعُ جمع أَمْرُع و أمراع: گھاس۔مكانٌ مَرِعٌ: سرسبز جگہ۔رجلٌ مَرِعٌ: گھاس یا سبزہ کا خواہاں۔المُرعة و المَرَعة جمع مُرَع و مِرْعان (ح): ایک قسم کا تیتر۔مكانٌ مَرِيع جمع أمراع و أَمْرُع: سرسبز جگہ۔کہا جاتا ہے: مَرِيعُ الجناب: بہت فیاض۔الأمْرُوعة جمع أماريع: سرسبز زمین۔المِمْراع: سرسبز۔مَمَارِيع الأرض: زرخیز زمینیں۔
٣-تَمَرَّعَ: جلدی کرنا۔اِنْمَرَعَ في البلاد: ملک میں گھس جانا۔
٤-المِرْعِزّ و المِرْعِزَّى و المَرْعِزَّى و المِرْعِزاء و المَرْعِزاء: بکری کے بالوں کا نچلا روواں۔نرم پشم۔
(ن) مَرَعَ ـَ مَرْعاً ہٗ: پر ملنا، تیل ڈالنا یا مالش کرنا۔مَرْع جمع أَمْرُع و أمراع: چراگاہ، چراگاہ کی گھاس۔مُرْعة: تیل، چکنائی، گریس۔مَرِيع: زرخیز، بار آور (مٹی)۔مِمْراع: پھولتا پھلتا، مالا مال اور کامران (شہر)۔

مرغ: ١-مَرَغَ ـَ مَرْغاً البعيرُ: اونٹ کا جھاگ گرانا۔أَمْرَغَ: سوتے میں منہ کے ایک طرف سے تھوک بہنا۔تَمَرَّغَ الحيوانُ: جانور کا منہ سے لعاب بہانا۔المَرْغُ (مص): لعاب، لعاب دہن۔المُرْغَة: ایک آنت جس

٢-مَرَغَ ـَ مَرْغاً الحيوانُ العُشْبَ: جانور کا گھاس کھانا۔ــ في العشب: گھاس چرنا۔مَرِغَ ـَ مَرَغاً عِرْضُهٗ: کی عزت کا خراب و داغ دار ہونا۔مَرَّغَ تَمْرِيغاً و تَمْراغةً في التراب: کو خاک میں لوٹانا۔ــ العِرضَ: عزت کو داغدار کرنا۔ــ رأسَهٗ: سر کو خوب تیل پلانا۔مَارَغَ ہٗ: کو فریب دینا۔ــ ہٗ بالتراب: کو مٹی چپڑا دینا۔أَمْرَغَ: بہت بکواس کرنا۔ــ العجينَ: آٹے میں پانی ملا کر اس کو پتلا کرنا۔ــ عِرْضَهٗ: کی عزت کو داغ دار کرنا۔تَمَرَّغَ في التراب: مٹی میں لوٹنا۔ــ في الامر: کسی کام میں تردد کرنا۔ــ على فلان: دیر لگانا۔ــ الرجلُ: آراستہ ہونا، قریب ہونا، درد سے پہلو بدلنا۔ــ في النعيم: آسودہ حال ہونا، آسائشوں میں لوٹنا۔ــت السائمةُ: جانور کا کسی جگہ دیر تک چرتے رہنا۔المارِغ: احمق۔المَرْغ: تیل کی اچھی طرح مالش، سبزہ زار۔المَرْغة: مَرَغ کا اسم مرۃ، سبزہ زار۔المَرِغ من الشَّعْر: بہت جذب کرنے والے بال۔المَراغ و المَراغة و المُتَمَرَّغ: وہ جگہ جہاں جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہو۔الأمْرَغ م مَرْغاء جمع مُرْغ: رذیل باتوں میں لگا رہنے والا۔
٣-تَمَرَّغَ الرجلُ: سیر کرنا۔
(ن) مَرَّغَ ہٗ: کو خاک میں لوٹانا، پر ملنا، کو ملنا۔أَمْرَغَ ہٗ: کو گندہ کرنا، خراب کرنا، میلا کرنا، آلودہ کرنا، داغ لگانا۔تَمَرَّغَ: لوٹنا، رہنا (خصوصاً خاک میں، مٹی میں)، پس و پیش کرنا۔
مَرْغَرِين: مکھن جیسی چیز۔نقلی مکھن۔
مُرْفِين: مارفیا۔افیون کا ست (morphine)۔

مرق: ١-مَرَقَ ـُ مَرْقاً القِدرَ: ہانڈی میں شوربا زیادہ کرنا۔أَمْرَقَ القِدرَ: ہانڈی میں شوربا زیادہ کرنا۔ــ الجلدَ: کھال سے اون اکھیڑنا۔ــ الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ــ ہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ــ مُرُوقاً السهمُ من الرميّة: تیر کا شکار پر لگ کر پار ہونا۔ــ من الدين: گمراہی یا بدعت کی وجہ سے دین سے خارج ہونا۔عوام کہتے ہیں: مرق فلانٌ: ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانا۔مَرِقَ ـَ مَرَقاً تِ البيضةُ: انڈے کا خراب ہو کر پانی ہو جانا۔ــ تِ النخلةُ: کھجور کے درخت کا پھل بڑا ہو کر گر جانا۔مَرَّقَ: گانا۔ــ القِدرَ: ہانڈی میں شوربا زیادہ کرنا۔ــ الجلدُ: کھال کا اون اکھیڑنے کے قابل ہونا۔ــ تِ النخلةُ: کھجور کے درخت کے پھل کا بڑا ہو کر گر جانا۔اسم المَرْق۔تَمَرَّقَ الشَّعْرُ: بال نوچے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جانا یا بیماری وغیرہ سے بالوں کا گرنا۔اِمتَرَقَ الشیءُ: جلدی سے گزر جانا۔۔۔السیفَ من غمدہ: تلوار سونتنا۔اِنمَرَقَ و اِمّرَقَ السھمُ: تیر کا چھید کر پار ہوجانا۔۔۔الشَعرُ: بالوں کا گرنا۔المَارِق: ہر چیز جو پار نکل جائے۔۔۔جمع مَارِقُون و مُرّاق: دین سے نکل جانے والا۔المَارِقۃُ: مَارِق کا مؤنث۔خوارج۔ المَرْق (مص) جمع اَمراق: دھنی ہوئی اون۔بدبودار اون یا کھال۔کہا جاتا ہے:اصابہ ذلك فی مَرْقِكَ: اسے یہ کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔المِرق: بدبودار اون یا کھال۔المَرَق و المَرَقۃ (ط): شوربا۔المُراقۃ: اکھیڑی ہوئی اون۔المَمْرَق: نکلنے کی جگہ،چھت کا روشن دان کھڑکی۔لحمٌ مُمْرِقٌ: چربی دار،چربیلا یا چکنا گوشت۔

۲۔تَمَرَّقَ الثوبُ: کپڑے کا عُصفُر سے رنگ جانا۔ المُرَيّق و المُرَيق: عُصفُر (کسم کا پودا،پھول یا رنگ(safflower)۔

مَرَق ـُـ مُرُوقا من: کسی چیز یا شخص کو چیر کر نکل جانا۔ کے آر پار ہوجانا (خصوصاً تیر کا)،میں سے جانا یا گزر جانا۔تیزی سے بڑھنا،تیزی سے گزرنا،تیزی سے آنا یا جانا،جلدی چلے جانا،بے تحاشا دوڑنا،بھٹک جانا (تیر کا) ہٹ جانا،منحرف ہونا۔من الدین: دین چھوڑ دینا،دین سے قطع تعلق کرنا۔مَرَقَ السھمُ: تیر گزر گیا مراد معاملہ ختم ہوا،طے ہوگیا۔مَرَق و مَرَقۃ: شوربا،یخنی۔مُرُوق: بھٹکنا،انحراف،ارتداد،الحاد، سرتابی،برگشتگی،روگردانی،غداری،بیوفائی،سرکشی۔ مُرُوقی: تونس میں پیشہ ور قاریوں کا عرفی نام۔ مَارِق جمع مُرّاق و مَرَقۃ: بھٹکنے والا،مرتد،ملحد، تارک دین،منحرف،منکر،ابن الوقت،بھگوڑا،مذہب کے مسلمہ عقائد کا مخالف،بدعتی،خارجی۔مُمَارِق: گستاخ،بے ادب،سرکش،بے تمیز۔

مرك ا۔مَرَّكَ: پر تجارتی مارکہ لگانا۔المارِکۃ: مارکہ۔ تجارتی نشان۔

۲۔المَرْكِيز: مارکوس(marquis)۔(ڈیوک اور ارل کا درمیانی خطاب نواب (دوسرے درجے کا بڑا خطاب)

مرم: المِرمِيس (ح): گینڈا۔

مرن ا۔مَرَنَ ـُـ مُرُونۃً و مُرُونا و مَرَانۃً: ملائم اور سخت ہونا۔۔۔ت یدہٗ علی العمل و وجھہ علی الامر: کام سے ہاتھ سخت ہونا،چہرہ پر تختی آنا۔۔۔ مُرُونا و مَرَانۃً علی الشیء: کا عادی ہونا،سے مانوس ہونا،مشق سے ملائم اور نرم ہونا۔۔۔مَرْنا الجلدَ کھال کو نرم کرنا۔۔۔بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔ مَرَّنَ الشيءَ: کو نرم کرنا۔۔۔فلاناً علی الامر: کو کام کا عادی بنانا۔۔۔بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔عوام کہتے ہیں:مَرَّنَ الشیء: کو پہلی بار استعمال کرنا۔تَمَرَّنَ: دانا،وزیرک بننا۔۔۔علی الشيء: کا عادی ہونا۔المَارِن (فا) جمع مَوَارِن: ناک کا کنارا،یا اس کی مرمری ہڈی۔رمحٌ مَارِنٌ: سخت اور ہموار نیزہ۔المَرْن (مص) جمع اَمْران: نرم چمڑا۔ ایک قسم کا لباس،چادر،پوستین،خوش آمدید جانب پہلو۔مَرنا الانف: ناک کے دونوں پہلو۔اَمْرانُ الذراع: بازو کا پٹھا۔المَرِن: ملائم۔شور وغل،لڑائی، عادت،خُلق۔کہا جاتا ہے:ھم علی مَرِنٍ واحدٍ: وہ یکساں اخلاق والے ہیں) حالت،کہا جاتا ہے: مازال ذلك مَرِني: میری حالت وہی ہے۔المُرّان واحد مُرّانۃ: ٹھوس لچکدار نیزے۔وہ درخت جس سے نیزے بنائے جاتے ہیں۔التَمرِين (مص) عند المدرسین: مشق جو طلبہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تربیت،ٹریننگ۔

۲۔مَرَنَ ـِـ مَرْنا من عدوّہ: دشمن سے بھاگ جانا۔

۳۔تَمَرَّنَ: مہربان ہونا۔المَرْن جمع اَمْران: عطیہ،عطا۔

۴۔تَمَارَنَتِ الناقۃُ: اونٹنی کا دودھ دینے سے رک جانا۔

۵۔المَيرُون عند النصاری: متبرک تیل جو مذہبی رسوم میں ملا جاتا ہے۔(holy chrism)(یونانی لفظ ہے)۔

مَرَنَ ـُـ مَرَانۃً و مُرُونًا و مُرُونۃ: لچک دار ہونا،نرم ہونا،ملائم ہونا،خم کھانے والا ہونا،جھکنے والا ہونا،اثر پذیر ہونا،سکڑنے پھیلنے والا ہونا۔۔۔مُرُونا و مَرَانۃ علی: کا عادی ہونا یا ہوجانا۔مَرَّن ہ: کو تربیت دینا، ٹریننگ دینا،کی سختی سے تربیت کرنا۔۔۔ہ علی: کو کا عادی بنانا۔تَمَرَّنَ علی: کا عادی ہوجانا،کی مشق کرنا،کی پریکٹس کرنا،کی ٹریننگ لینا،میں مشاق ہونا، ٹرینڈ ہونا،ماہر ہونا،سخت تربیت دیا جانا۔مَرِن: لچک دار،نرم،ملائم،خم کھانے والا،جھکنے والا،سکڑنے پھیلنے والا،سانچے میں ڈھلنے والا،دبنے والا،پلپلا،لچکیلا، وسعت پذیر،بڑھانے یا پھیلانے کے قابل، فرمانبردار،مطیع،دبنے والا،بات مان لینے والا۔مَرانۃ و مُرُونۃ: لوچ،لچک،اثر پذیری،نرمی،جھکنے کی صلاحیت، اصلی حالت پر آجانے والی خصوصیت،ملائمت، تربیت،پذیری،ڈھل جانے کی صلاحیت،صورت پذیری،چستی،تیزی،پھرتی،تیز فہمی،چابکدستی،سبک رفتاری،ابھرنے کی قوت،قلا بازی،الٹی زقند۔ تَمرِين جمع تَمرِينات و تَمارِين: مشق،پریکٹس، ٹریننگ،ملٹری ٹریننگ،ڈرل،عملی تجربہ،مہارت،ہنر مندی،حسن تدبیر،تیاری کرانے والی ٹریننگ،آزمائشی تقرر(کا عرصہ) شاگردی،نوآموزی۔تمرین ابتدائی: بنیادی ٹریننگ۔تمارینُ جندیۃ او تمرینات عسکریۃ: فوجی مشقیں،فوج یا بحری بیڑے کی منصوبہ کے مطابق نقل و حرکت۔تمرینُ الزیادۃ: اتالیقی coaching, tutoring زائد ڈرل (فوجی)۔تمرینات رِیاضیۃ: ورزشی مشقیں، کسرتیں،تحت التمرین: زیر ٹریننگ،زیر تربیت، آزمائشی عرصہ کے لئے تقرر شدہ (ملازم)۔مِران: مہارت،ہنرمندی،مشق،پریکٹس،ڈرل،ٹریننگ، عادت،خونریزی،خوگری،عادی ہونا،عملی تجربہ، روٹین،معمول۔تَمَرُّن: مشق،پریکٹس،ٹریننگ، تربیت۔مُمَرِّن: تربیت یا ٹریننگ دینے والا،اتالیق، استاد،خانگی معلم،انسٹرکٹر،سکھانے والا،ڈرل سارجنٹ۔مُمَرَّن: پریکٹس کیا ہوا،تجربہ کار،تربیت یافتہ،ٹریننگ یافتہ۔علی: میں تربیت یافتہ،میں ماہر، کا عادی۔مُتَمَرِّن علی: میں پریکٹس کئے ہوئے، تجربہ کار،ماہر،ٹریننگ یافتہ،کا عادی۔۔۔ آزمائشی، آزمائشی مدت میں،امیدوارانہ،کارآموزانہ۔

مرہ: ا۔مَرِہَ ـَـ مَرَھًا ت عینُہٗ: کی سرمہ نہ لگانے سے آنکھ کا خراب ہونا۔صفت مَرِہ و اَمْرَہ۔رجل مَرِہُ الفؤاد: بیماردل والا۔المُرْھَۃ: خالص سفید رنگ، بارش کے پانی والا گڑھا۔سحابٌ اَمْرَہُ: سفید بادل۔المَرْھَاء جمع مُرْہٌ: امرہ کا مؤنث۔شاۃ مَرْھَاء: سفید بکری۔ارض مَرْھَاء: تھوڑے درختوں والی زمین خواہ ہموار ہو یا سخت اونچی۔

۲۔مَرْھَمَ مَرْھَمَۃً الجرحَ: زخم پر مرہم لگانا۔المَرْھَم جمع مَرَاھِم: مرہم،پولٹس۔

مرو: المَرْو واحد مَرْوَۃ (ط ا): سنگریزہ،چقماق کا پتھر(کہا جاتا ہے:قَرَعَ الدھرُ مَرْوَتَہٗ: زمانہ نے اس پر بلا نازل کی) ایک مہک دار پودا۔

مَرْو: ترکمان روس کے ایک شہر کا نام۔مَرْوِی: مرو کا باشندہ۔

مری: ا۔مَرَی یَمْرِی مَرْیًا الناقۃَ: اونٹنی کے تھن کو دودھ دوہنے کے لئے ملنا۔۔۔الدمَ و نحوہٗ: خون وغیرہ خارج کرنا،نکالنا۔۔۔ت الریحُ السحابَ: ہوا کا بارش لانا۔۔۔الشیءَ: کو نکالنا۔۔۔الفرسُ: گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہو کر چوتھا پاؤں زمین پر مارنا۔۔۔الفرسَ: گھوڑے کو کوڑے وغیرہ سے آگے بڑھانا۔کہا جاتا ہے:مَرَّیمُرِی دابّتَہٗ: جانور کو ٹانگ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

یاران سے آگے بڑھانا ـــ فلانًا مائةَ سوط: کو سو کوڑے مارنا ـ مَارَی مِراءً و مُمَاراۃً: جھگڑنا ـ أَمْرَت الناقۃُ: اونٹنی کا دودھ بہنا ـ تَمَارَیا: آپس میں جھگڑنا ـ اِمْتَرَی و اسْتَمْرَی اللبنَ و نحوَہٗ: دودھ وغیرہ نکالنا ـ المِرْیَۃ: جھگڑا (کہا جاتا ہے: مافیہ مِرْیۃ: اس پر کوئی جھگڑا نہیں ـ) تھن مل کر نکالا جانے والا دودھ ـ کہا جاتا ہے: اخذتُ مریۃ الناقۃ: میں نے اونٹنی کے تھن کو مل کر نکالا ہوا دودھ لیا ـ المُرْیۃ: جھگڑا ـ المَرِیّ جمع مَرَایا: بہت دودھ والی اونٹنی، دودھ سے بھر جانے والی رگ ـ المَرِیّۃ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی ـ

۲ ـ مَرَی یَمْرِی مَرْیًا حقَّہ: کا حق قبول نہ کرنا ـ

۳ ـ تَمَرَّی تَمَرِّیًا بکذا: سے آراستہ ہونا، بننا ٹھننا، بناؤ سنگار کرنا ـ المَارِیّ د مَارِیّۃ: سفید و نرم بالوں والا بچھڑا ـ المَارِیۃ: سفید و نرم بالوں کے بچھڑے والی گائے ـ المَرَایا جس کی جمع المِرْآۃ ہے ـ کہا جاتا ہے: ھنیئًا مَرِیًّا بجائے ھنیئًا مریئًا (ہمزہ کے ساتھ) ـ المُمْرِیۃ: سفید نرم بالوں کے بچھڑے والی گائے ـ

۴ ـ اِمْتَرَی فی الشیء: پر شک کرنا ـ المِرْیَۃ والمُرْیَۃ: شک ـ

۵ ـ المَارِیّ: دھاریدار چھوٹی چادر، بھٹ تیز کا شکاری ـ أَمْرٌ مُمْرٍ: سیدھا کام ـ

۶ ـ مَرْیَم جمع مَرْیمات: عورت کا اسم معرفہ یا ذاتی نام (سریانی لفظ بمعنی بلند و بالا) ـ

○ مَارَی ہ: سے جھگڑنا، بحث تمحیص کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، مقابلہ کرنا، مزاحمت کرنا، کی مخالفت کرنا ـــــ فی: کے مقابلہ میں حصہ لینا ـ اِمتری فی: میں شک کرنا ـ مُرْیَہ و مِریۃ: شک، جھگڑا ـ مِراء: جھگڑا، شک ـ بلامِراء یا لامِراء فیہ: ناقابل تردید، حتمی، یقینی، مسلمہ، مانا ہوا، جس میں مخالفت نہ ہو ـ لامراء فی أن: یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ـ یہ بات یقینی ہے کہ ...... یہ مسلمہ بات ہے کہ ...... مَرْیَم میری Mary اور ماریا Maria ـ مَرْیَمِیَۃ: خوشبودار سبزی، ساج ـ

مز: ۱ ـ مَزَّ ـ مَزَازَۃً الرجُلُ: فضیلت والا ہونا ـ الشیءُ: زیادہ ہونا صفت مزیز ـ مَزَّزَہٗ: کو فضیلت سمجھنا ـــ ہٗ بکذا: کو کوئی فضیلت دینا ـ المِزّ: قدر، فضیلت، کثرت ـ کہا جاتا ہے: شیءٌ مِزٌّ: فضیلت والی چیز ـ المَزَز: کثرت ـ کہا جاتا ہے: فعلتہ علی مَزَز: میں نے یہ کام فرصت میں کیا ـ المزیز: بہت عمدہ، اعلیٰ، بہت ـ الأَمَزّ م مَزّاء جمع مُزّ: بہت عمدہ، اعلیٰ، افضل ـ

۲ ـ مَزَّ ـ مَزَازَۃً و مُزُوزَۃً الطعمُ: ذائقہ، کھٹا میٹھا، کھٹایا ترش ہونا، بے مزا ہونا ـ مَزَّ الشیءَ: کو چوسنا ـ تَمَزَّزَ: کوئی ترش چیز کھانا یا پینا ـــــ الشرابَ: مشروب یا شراب کی چسکیاں لینا ـ المُزّ م مُزّۃ: کھٹ مٹھا، ترش، بے ذائقہ ـــ و المُزّاء: مزیدار، خوش ذائقہ شراب، چسکی، چوسنا ـ کہا جاتا ہے: مابقی فی الاناء مَزّۃ: برتن میں صرف تھوڑی سی چیز بچ گئی ہے ـ المَزِیز: تھوڑا ـ

۳ ـ مَازَّ مُمَازَّۃً بینھما: کو دور دور کرنا، جدا جدا کرنا، کو علیحدہ علیحدہ کرنا ـ تَمَازَّت النیّۃُ بہ: سے دور ہونا ـ

۴ ـ المَزّ: مشکل، دشوار ـ کہا جاتا ہے: ھذا أمر مَزٌّ: یہ مشکل کام ہے ـ المِزیز: مشکل ـ الأمَزّ م مَزّاء جمع مُزّ: مشکل ـ

۵ ـ مَزْمَزَہٗ: کو اکھاڑنے کے لئے ہلانا جلانا ـ عوام کہتے ہیں: مَزْمَزَ الکأسَ: اس نے پیالہ کی چسکیاں لیں ـ تَمَزْمَزَ: ہلنا ـــ للقیام: اٹھنا یا تیار ہونا ـ

○ مَزَّ: چوسنا ـ مُزّ: کھٹا سا، ہلکی سی کھٹاس رکھنے والی (چیز) ـ مَزّۃ جمع مَزّات و مَازّۃ: اچار، چٹنی وغیرہ ـ اشتہا انگیز (کھانے پینے کی چیز) ـ

مزج: ۱ ـ مَزَجَ ـ مَزْجًا و مِزَاجًا الشرابَ بالماء: شراب میں پانی ملانا ـ مَزَّجَ السنبلُ: بالی کا زرد ہو جانا ـ مَازَجَ مُمَازَجَۃً ہٗ: سے خلط ملط ہونا، سے ملنا ـ تَمَازَجَ: باہم خلط ملط ہونا ـ اِمْتَزَجَ بہ: سے مل جانا، گھل مل جانا ـ اِسْتَمْزَجَ ہٗ: سے مل جانا تا کہ اس کی خواہشات اور رجحان معلوم کرے ـ المِزْج والمَزْج: شہد، شراب میں ملایا ہوا پانی ـ المِزَاج (مص) جمع أَمْزِجۃ: شراب میں پانی کی طرح کوئی چیز جو ملائی جائے ـ آمیزش، مزاج، طبیعت ـ رجل مَزّاجٌ: متلون مزاج شخص ـ المَزِیج: ملایا ہوا ـ

۲ ـ مَزَجَ ـ مَزْجًا و مِزاجًا فلانًا علی فلان: فلاں کو فلاں کے خلاف بھڑکانا، اکسانا ـ مَازَجَ مُمَازَجَۃً ہٗ: سے فخر میں مقابلہ کرنا ـ

۳ ـ مَزَّجَ فلانًا: کو کوئی چیز دینا ـ

۴ ـ المَزِیج. کڑوا بادام ـ

○ مَزَجَ ـ مَزْجًا و مِزاجًا بیں: مختلف چیزوں کو باہم ملانا، خلط ملط کرنا ـــ ہ ب: کو سے ملانا، خلط ملط کرنا ـ مَازَجَ ہ: سے آمیزہ یا مرکب بنانا، سے خلط ملط ہونا، سے مل جانا، کی ملاوٹ والا ہونا، سے میل کھانا یا، امتزاج ہونا، سے مرکب ہونا، سے الجھا ہونا [illegible] آپ کو کے مطابق کرنا، موافق کرنا، کو خوش کرنا، کی بات ماننا ـ تَمَازَجَ: باہم خلط ملط ہونا، مل کر ایک ہو جانا ـ اِمْتَزَجَ ب: سے مل جانا، مل جل جانا، آمیزش ہونا، مرکب ہونا، مخلوط ہونا، مل کر ایک ہونا، سے رشتہ جڑنا، سے گھل مل جانا، خلط ملط ہونا، سے ایک ہو جانا ـ مَزْج: ملانا، خلط ملط کرنا، گھل مل جانا، ایک ہونا ـ مِزاج جمع أَمْزِجۃ: آمیزہ، گڈمڈ، ترکیب دی ہوئی چیز، آمیزش والی چیز، مرکب، مزاج، طبیعت، سرشت، خصلت، فطرت، افتاد طبع، رجحان، دماغی ساخت، انداز طبع، موڈ (mood) خو، خوش طبعی، رنگ، انداز، جسمانی ترکیب یا بناوٹ، حالت، صحت کی حالت ـ مزاج دموی: جوشیلا مزاج ـ مزاج سوداوی: غمگین مزاج ـ مزاج صفراوی: چڑچڑا یا تیز غصیلا مزاج ـ مزاج بلغمی: بلغمی مزاج سست یا دھیما مزاج ـ المزاج العام: عوامی ذوق ـ مزاج لطیف: نازک طبیعت، کمزور طبیعت ـ مَحْرُور المزاج: گرم مزاج (شخص) ـ منحرفُ المزاج: بیمار، علیل ـ مضمحل افسردہ، ناساز ـ ھذا لا یوافق مزاجی: یہ مرے ذوق کے مطابق نہیں ـ مزیج من کا مرکب کا آمیزہ ـــ: میل، مجموعہ، آمیختہ، مرکب، آمیزہ، ملاوٹ، کھوٹ، مختلف دھاتوں کا مرکب ـ اِمتزاج: آمیزش، مرکب، امتزاج، اختلاط، آمیزش والی چیز، ترکیب دی ہوئی چیز ـ

مزح: ۱ ـ مَزَحَ ـ مَزْحًا: مذاق کرنا، مخول کرنا ـ مَازَحَ مِزاحًا و مُمَازَحَۃً ہٗ: سے ہنسی مذاق کرنا ـ تَمَازَحا: باہم ہنسی مذاق کرنا ـ المُزَاح و المُزَاحۃ: ہنسی مذاق، مخول ـ المُزّاح من الناس: ہنسی مذاق کرنے والے، مخولئے ـ

۲ ـ مَزَّحَ السنبلُ او العنبُ: بالی یا انگور کا رنگ پکڑنا ـ المَزْح (مص): بالی، خوشہ ـ

۳ ـ تَمَزَّحَ بہ: پر فخر کرنا ـ

○ مَزَحَ ـ مَزْحًا: مذاق کرنا، مزاح کرنا، یونہی کہہ دینا، دل لگی کرنا، چھیڑنا ـ مَزْح و مُزَاح و مِزَاح و مُزَاحۃ: دل لگی، ہنسی مذاق ـ مَزّاح و مازح: مسخرا، بھانڈ ـ

مزد: المَزْد: سردی ـ کہا جاتا ہے: ما رأینا مَزْدًا فی ھذا العام: ہم نے اس سال سردی نہیں دیکھی ـ

مزر: ۱ ـ مَزَرَ ـ مَزْرًا من اللبن: تھوڑا سا دودھ پینا ـــ اللبنَ: دودھ کو چکھنے کے لئے پینا ـــ ہٗ: کی چسکی لینا ـ تَمَزَّرَ النبیذُ: شراب کو تھوڑا تھوڑا پینا ـ المَزْرۃ: چوسنا، چسکی ـ المِزْر: جو یا گندم کی شراب ـ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲-مَزَرَ ـ مَزْرًا ہٗ: کوغصہ دلانا ـــ مَزَّرَ القِربةَ: مشک بھرنا۔

۳-مَزُرَ ـ مَزَارَةً: مضبوط دل والا ہونا، بذلہ سنج ہونا، ظریف ہونا۔ المَزْرُ (مص): بذلہ سنج۔ ظریف۔ المَزِیر جمع أمازِر: بذلہ سنج، ظریف، مضبوط دل شخص۔ الأَمْزَر م مَزْرَاء جمع مُزْر و أَمَازِر: زیادہ بذلہ سنج، خوش دل، زیادہ ظریف۔ کہا جاتا ہے ہو من امارر الناس: وہ بہترین لوگوں میں سے ہے۔

۴-المِزْرُ: بے وقوف، اصل۔ کہا جاتا ہے ہو کریمُ المِزر: وہ شریف الاصل ہے۔

☪ مِزر: ایک قسم کی شراب۔

مزغ: ا-مَزَعَ ـ مَزْعًا الظبی و نحوُہٗ: ہرن وغیرہ کا آہستہ دوڑنا۔ المَزَّاع: بہت دوڑنے والا (ح): سیہی، خارپشت۔ کہا جاتا ہے القنافذ تُمْزَعُ باللیل مَزْعًا: سیہیاں رات کے وقت تیز چلتی ہیں۔ المَزِعِیّ: چغل خور، رات کو چلنے والا ـ فرس مُمْزَعٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

۲-مَزَعَ ـ مَزْعًا القطنَ: روئی کو انگلیوں سے چننا۔ مَزَّعَ الشیءَ: کو متفرق کرنا ـــ القطنَ: روئی کو انگلیوں سے چننا۔ تَمَزَّعَ: الگ الگ ہونا۔ تَمَزَّعوا الشیءَ بینھم: انہوں نے چیز آپس میں تقسیم کر لی۔ کہا جاتا ہے ہو یَتَمَزَّعُ غیظًا: وہ غصہ میں بولنے سے رک جاتا ہے۔ المِزْعَة جمع مِزَع: روئی وغیرہ کا گالا ـــ و المُزْعَة جمع مِزَع و مُزَع من لحم او شحم: گوشت یا چربی کا ٹکڑا ـــ من الماء: پانی کا گھونٹ۔ المُزَاعَة من الشیء: چنتے وقت گر جانے والی چیز۔

☪ مَزَعَ ـ مَزْعًا: دوڑنا، کودنا، چھلانگ لگانا، چھلانگیں لگاتے ہوئے جانا، اڑتے ہوئے جانا، سرپٹ دوڑنا ـ ہٗ: کو پھاڑنا، چیرنا ـ ہٗ من: کو سے پھاڑ لینا کو کاٹ کر کھولنا۔ مَزَّعَ ہٗ: اون یا روئی چننا، توڑنا، اکٹھا کرنا، کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ مُزْعَة و مِزْعة جمع مُزَع و مِزَع: ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا، کٹا ہوا ٹکڑا، اون کی جٹا، اون یا روئی کا گچھا، اون یا روئی کا گالا، اون کی کترن یا گودڑ۔

مزق: مَزَقَ ـ مَزْقًا و مَزْقَةً الثوبَ: کپڑا پھاڑنا ـ عِرضَھم: کی عزت پر عیب لگانا صفت مَزِق جمع مَزِقُون ـ أتانی انھم مَزِقون عِرضی: مجھے پتہ لگا کہ وہ میری عزت پر عیب لگاتے ہیں۔ مَزَّقَ الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔ کہا جاتا ہے مَزَّقَھُمُ اللّٰہ کُلَّ مُمَزَّقٍ: اللہ نے انہیں ملک کے اطراف میں بکھیر دیا۔ مَازَقَ ہٗ: پر دوڑ میں سبقت لیجانا۔ تَمَزَّقَ: پھٹنا ـ القومُ: بکھر جانا۔ اِنْمَزَقَ: پھٹنا۔ کہا جاتا ہے ثوبٌ مَزِقٌ و مِزَقٌ و مَزِیق: پھٹا ہوا کپڑا۔ المِزْقة جمع مِزَق: کپڑے وغیرہ کا ٹکڑا، چیتھڑا ـ ناقةٌ او فرس مِزاق: تیز رفتاری سے کھال پھٹنے کے قریب اونٹنی یا گھوڑا۔

۲-مَزَقَ ـ مَزْقًا و مَزْقَةً الطائرُ بسلحہ: پرندے کا بیٹ کرنا۔

☪ مَزَقَ ـ مَزْقًا ہٗ: کو پھاڑنا، کے ٹکڑے کرنا، کو پھاڑ کر جدا کرنا۔ مَزَّقَ ہٗ: کو پھاڑنا، کے ٹکڑے کرنا، کو پھاڑ کر جدا کرنا، کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کو چیتھڑے کر دینا۔ تَمَزَّقَ: پھٹنا، ٹکڑے ہونا، چیتھڑوں کی شکل میں ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پھٹ کر کھل جانا، پھٹنا، چرنا، ٹوٹنا، ٹوٹ جانا، تڑاقے سے کھلنا۔ مَزْق: پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، چاک، درز، شگاف، لکیر، چیری، ٹوٹ پھوٹ، شکستگی، بگاڑ۔ مِزْقَة جمع مِزَق: پھاڑا ہوا ٹکڑا، چیتھڑا۔ تَمْزِیق: پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، چیتھڑے کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

مزك: المَزْکا: شراب اور پانی کا نام جو نذر کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ (سریانی لفظ بمعنی مزج ہے)۔

مزن: ا-مَزَنَ ـ مَزْنًا و مُزونًا: چلے جانا، راہ لینا ـــ من العدوّ: دشمن سے نکل کر بھاگ جانا۔ تَمَزَّنَ: چلے جانا، اپنی راہ لینا۔

۲-مَزَنَ ـ مَزْنًا و مَزَّنَ فلانًا: کی تعریف کرنا، کو اس کی پیٹھ پیچھے حاکم کے سامنے ترجیح دینا اور اس کی ستائش کرنا ـــ القربةَ: مشک بھرنا۔ تَمَزَّنَ: حد سے زیادہ اپنی تعریف کرنا۔ زیرک بننا ـــ علی القوم: پر مہربان و سخاوت کرنا۔ المُزْن: بادل، بارش والا بادل۔ حَبُّ المُزْن: اولہ۔ المُزْنَة: بادل کا ٹکڑا، بارش۔

۳-مَزَنَ ـ مَزْنًا و مُزونًا وجھُہٗ: چہرہ کا چمک اٹھنا۔

۴-تَمَزَّنَ علی الامر: کام کا عادی ہونا۔ المَزَن: عادت، طریقہ، حالت۔ کہا جاتا ہے: مازال علی ھذا المَزَن: وہ اس طریقہ یا حالت پر ہے۔

۵-المَازِن: چیونٹیوں کے انڈے۔ مُزَیْنَة: مضر کا ایک قبیلہ۔ ان لوگوں کی طرف منسوب کو مُزَنِی کہتے ہیں۔

☪ مُزْن (اسم جمع واحد مزنة) جمع مُزَن: بارش لانے والے بادل۔

مزہ: مَزَہَ ـ مَزْھًا: ہنسی مذاق کرنا۔

مزو: مَزَا یَمْزُو مَزْوًا: تکبر کرنا۔ مَزَّی تَمْزِیَةً ہٗ: کی تعریف کرنا۔ کہا جاتا ہے: مَزَّیْتُ مَتَاعَہٗ حتی نَفَّقْتُہٗ لہ: میں نے اس کے سامان کی تعریف یہاں تک کی کہ اس کے لئے منڈی تلاش کر لی۔ تَمَازَی القومُ: ہر ایک کا اپنی فضیلت کے گیت گانا۔ المَزْو والمَزِیَّة جمع مَزَایا و المَازِیَة جمع مَازِیات: علم و کرم شجاعت و شرافت وغیرہ میں فضیلت و برتری جو انسان کو دوسرے سے ممتاز کر دے۔

مزی: مَزَی ـ مَزْیًا: تکبر کرنا۔ مَزَّی تَمْزِیَةً الرجُلَ: کی تعریف کرنا۔ کہا جاتا ہے قعد عنی سازیا و مُتَمازِیًا: وہ مجھ سے دور مخالف ہو کر بیٹھا۔ المُزاۃ مفرد ماز۔ سرکش لوگ۔ المازِیَة ج مازیات و المَزِیَّة ج مَزَایا: علم یا کرم یا شجاعت یا شرف وغیرہ جس سے انسان یا چیز دوسرے سے ممتاز ہو۔ المَزِیّ: ظریف، خوش طبع، بذلہ سنج، زیرک۔

☪ مَزِیَة جمع مَزَایا و مَازِیَة جمع مَازِیات: بہتری، برتری، استحقاق، خصوصی اختیار، اختیار، حق، فضیلت، قدر، شرف، سربلندی، جوہر ذاتی، گن، وصف، قابلیت، لیاقت، رتبہ، درجہ، بزرگی، خوبی، صفت، اچھائی۔

مسّ: ا-مَسَّ ـ مَسًّا و مَسِیسًا و مِسِّیسَی الشیءَ: کو چھونا، کو پہنچنا ـــ المرضُ او الکبرُ فلانًا: کو بیماری یا بڑھاپے کا لاحق ہونا ـــ الحاجةُ الی کذا: حالات کا تقاضا ہونا کہ یہ ضروری ہے کہ، کی فوری ضرورت ہے، ضرورت کا پر مجبور کرنا ـــ ہٗ الشیطان بنصب او عذاب: شیطان کا کسی کو بیماری یا دکھ میں مبتلا کرنا۔ کہا جاتا ہے مَسَّتْ فلانًا مواسُّ الخیر والشرّ: کو بھلائی پیش آئی یا اس پر برائی آ پڑی۔ مَسَّتْ بك رحِمُ فلان: تجھے فلاں شخص کے ساتھ قریبی رشتہ پہنچا۔ مُسَّ مَسًّا: پاگل ہونا صفت ممسوس۔ ماسَّ مُمَاسَّةً و مِسَاسًا ہٗ: کو چھونا، پہنچنا، بذات خود ملنا۔ اَمَسَّ ہٗ الشیءَ: کو چیز چھوانا۔ کہا جاتا ہے: اَمَسَّ وجھہ الماءَ او بدنہ الطیبَ: اس نے چہرہ پر پانی اور جسم پر خوشبو چھڑکی۔ تَمَاسَّ الشیئان: ایک دوسرے کو چھونا۔ الماسّ (فا): حاجةٌ ماسَّةٌ: سخت ضرورت۔ کہا جاتا ہے: بینھم رَحِمٌ مَاسَّة: ان کے درمیان قریبی رشتہ ہے۔ مَسَاسِ: اسم فعل بمعنی الامر یعنی: چھو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے: لا مَسَاسِ: مت چھو۔ المَسَّاس: بہت چھونے والا۔ مَسَّاس الفدان عند الحرّاثین: آنکس، کچک، آر (سریانی لفظ۔ کہا جاتا ہے: بینھم رَحِمٌ مَسَّاسة: ان کے درمیان انتہائی قریبی رشتہ ہے۔ المَسُوس من الماء: پانی جو ہاتھوں میں لیا جا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سکے، میٹھا صاف پانی، میٹھے اور نمکین کے درمیان، پیاس بجھانے والا پانی۔ کَلاءٌ مَمْسُوسٌ: پرمغز ہوئی گھاس، خوشگوار گھاس۔ الأَمَسّ اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: هو فی امَسّ حاجة الی کذا: اسے اس کی اشد ضروری حاجت ہے۔ مَسِیسُ الحاجة: حاجت کا مجبور کرنا۔

۲۔ المِسّ تانبا۔ النَّبیسة (ط) ایک قسم کی مٹھائی۔

۳۔ مَسْمَسَ مَسْمَسَةً و مِسماسًا الامرُ: کام کا پیچیدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: هو من امره فی مِسْماس: وہ اپنے معاملہ کے متعلق الجھن میں ہے۔ مُسْمِسَ الرجُلُ: مخبوط الحواس ہونا۔ المَسْماس: خفیف، ہلکا۔

مَسّ ـَـ مَسًّا و مَسیسًا ہ: کو محسوس کرنا، چھونا، ٹٹولنا، چھو کر معلوم کرنا، بھانپنا، جانچنا، مبتلا ہونا، کو بھگتنا، انگلی سے چھونا، کو ہاتھ لگانا، چلانا، استعمال کرنا، کا بندوبست کرنا۔ ـــہ (کسی متبرک یا مقدس چیز) کی بے حرمتی کرنا، کی خلاف ورزی کرنا، سے تجاوز کرنا۔ ـ ہ (عورت، بیوی) سے ہمبستر ہونا، مباشرت کرنا، صحبت کرنا۔ ـــ ہ (نقصان، مصیبت) کا کسی پر وار کرنا، پر نازل ہونا، پڑنا، واقع ہونا۔ مسه باذیً یا مسه بسوءٍ: کو نقصان پہنچانا، کو تکلیف دینا، مجروح کرنا، ٹھیس پہنچانا، پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کو بدنام کرنا، رسوا کرنا۔ مس بسوء الشیء: کے لئے نقصان رساں ہونا، مضر ہونا، کو نقصان پہنچانا، کو بگاڑنا، کو کمزور کرنا، گھٹانا۔ مست الحاجة إلی: حالات کا تقاضا ہونا کہ یہ ضروری ہے کہ، اس کی فوری ضرورت ہے کہ ـــ مس لُغْمًا: کسی سرنگ سے ٹکرانا۔ ماسّ ہ: کو چھونا، کے ساتھ میل جول رکھنا، رابطہ رکھنا۔ تماسا: ایک دوسرے کو چھونا، باہم رابطہ میں ہونا۔ مَسّ: چھونا، میل جول، رابطہ، مصیبت، حملہ، (بیماری کا) دورہ، عارضی غلبہ، پاگل پن، دیوانگی، جنون، خبط، سودا، خفقان، جنون کا حملہ، قبضہ۔ مسُّ الحُمّی: بخار کا حملہ۔ اصابه مس من الجنون: وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ مَسّة: چھونا۔ مِساس: چھونا، محسوس کرنا، انگلی لگانا، ہاتھ لگانا، چھو کر معلوم کرنے کا عمل۔ ـــب: کی بے حرمتی، خلاف ورزی، سے تجاوز۔ مِساس: تعلق، رشتہ، رابطہ۔ له مساس به: یہ ...... سے مربوط ہے، یہ ...... کے متعلق کہتا ہے، کہتی ہے، یہ ...... کے متعلق ہے۔ فیماله مساس به: کے متعلق، کے بارے میں۔ مَسِیس: چھونا، لمس۔ عِندَ مَسِیسِ الحاجة: بضرورت پڑنے پر، اگر یا جب ضروری ہو۔

فی مسیس الحاجة إلی: کا فوری ضرورت مند۔ تماسّ: (باہمی) رابطہ۔ ماس: خط مماس۔ وہ خط جو کسی سطح کو چھوتا ہوئے گزرے مگر قطع نہ کرتا ہو۔ ماس ب: کو چھوتا ہوا، کے متعلق کچھ کہتا ہو۔ ماسّ: ملحق، ملا ہوا، متصل، قریب، فوری، تاکیدی، ضروری، اہم۔ حاجة ماسة: فوری ضرورت، شدید ضرورت، اہم ضرورت۔ ماس کهربائی: شارٹ سرکٹ۔ برقی رو کا ناقص دور short circuit۔ مَمْسُوس: چھوا ہوا، چھونے کے قابل، لمس کے لائق، کھلا ہوا، واضح، صاف۔ مُماس: خط مماس (tangent)۔

مسأ: ۱۔ مَسَأَ ـَـ مَسْأً و مُسُوءًا: مخول کرنا۔

۲۔ مَسَأَ ـَـ مَسْأً و مُسُوئًا الماشی: دیر لگانا، آہستہ ہونا۔ ـــ الحقَّ: کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔

۳۔ مَسَا ـَـ مَسْنًا و مُسُوءًا الطریقَ: راستہ کے درمیان میں چلنا۔

۴۔ مَسَا ـَـ مَسْنًا و مُسُونًا علی الشیء: کا عادی ہونا۔ ـــ الرجُلَ بالقول وغیرہ: کو بات وغیرہ سے نرم کرنا، دھوکا دینا۔ ـــ و اَمْسَأَ بین القوم: لوگوں میں فساد ڈالنا۔ تَمَسَّأَ الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا۔

مُسْتَرْدَہ: رائی، سرسوں، خردل، سرشف، توریا۔ مِسْتِکَة: مصطگی، مَسْتِلَة جمع مَسْتِلات: ٹب (tub)۔

مسح: ۱۔ مَسَحَ ـَـ مَسْحًا الشیءَ: کو پونچھنا۔ بیماری کیلئے دعا پر کہتے ہیں: مسح الله مابك من علةٍ: اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری دور کرے اور تمہیں صحت یاب کرے ـــہُ بالدهن: پر تیل ڈالنا یا تیل ملنا۔ ـــ ذوائبَ المرأة: کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ ـــ الإبلَ: اونٹوں کو تھکا کر کمزور کرنا ـــهُ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا (بطور استعارہ) ـــ عُنُقَه: کی گردن کاٹنا۔ ـــ فلانًا: کو مارنا۔ ـــ سیفَه: تلوار سونتنا۔ کہا جاتا ہے: مسح القوم قِتالاً: کو بے دردی سے قتل کرنا۔ کہا جاتا ہے: مسحه اللهُ: اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک اور خوبصورت پیدا کیا یا ملعون اور بدصورت پیدا کیا (ضد)۔ ـ مُسُوحًا فی الارض: زمین میں سفر کرنا (استعارہ ہے)۔ مَسِحَ ـَـ مَسَحًا: کپڑے کے کھردرے پن سے گھٹنوں کا اندر سے جلنا۔ مُسِحَ بالعِتق او الكرم: پر انگور کی بیل یا شراب کا رنگ ہونا۔ مَسَّحَ الشیءَ: کو پونچھنا۔ ـــهُ بالدهن: پر تیل لگانا یا ملنا۔ ـــ الإبلَ: اونٹوں کو تھکا کر کمزور کرنا۔ تَمَسَّحَ بالماء و من الماء: پانی سے نہانا ـــ الشیءَ: کو پونچھنا۔ ـــ بالماء او الدهن: کو پانی یا تیل سے ملنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ یُتَمَسَّحُ به: فلاں سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ اِمْتَسَحَ السیفَ: تلوار سونتنا۔ المَاسِح: بہت قتل کرنے والا۔ المَاسِحَة جمع مَوَاسِح: ماسح کا مؤنث۔ کنگھی کرنے والی۔ المِسْح جمع أمْسَاح و مُسُوح: بالوں کا کمبل، بالوں کا کپڑا، بالوں کی قمیص، خانقاہی لباس، راہب کا چوغا، ٹاٹ، بوریا، بڑی سڑک۔ المَسَح (مص): کپڑے کے کھردرے پن سے گھٹنے کے اندرونی حصہ کی جلن۔ المَسْحة: مسح کا اسم مرۃ۔ رگڑ، نشان، اثر۔ کہا جاتا ہے: علیه مسحة من جمالٍ او هزالٍ: اس پر حسن یا لاغری کا ظاہری اثر ہے۔ مَسْحة المرضی: تسکین دینے والا مرہم، پاک روغن کی مالش۔ المَسَّاح: زمین کی پیمائش کرنے والا۔ المَسِیح جمع مُسَحَاء و مَسْحَی: تیل لگایا ہوا، پسینہ، صدیق، چاندی کا ٹکڑا، کانا، خوبصورت چہرے والا خوبصورت، بہت سیاحت کرنے والا۔ ـــ من الدراهم: نقش مٹا درہم۔ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام۔ المَسِیحَة جمع مَسَائِح: سر کے دونوں جانبوں کے بال، پیشانی کے بال، کنپٹی اور پیشانی کا بیچ، کمان، چاندی کا ٹکڑا۔ المَسِیحی: عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب۔ المِسِّیح: بہت سیاحت کرنے والا۔ الأمْسَح م مَسْحاء جمع مُسْح: رگڑ سے سوزش والی رانوں والا، ہموار یا چپٹے تلووں والا، یک چشم، کانا، بڑا سیاح۔ ـــ من الارض جمع أمَاسِح: ہموار زمین۔ المَسْحاء: چھوٹے پستانوں والی عورت۔ کہا جاتا ہے: امرأة مسحاء الثدی (اسی معنی میں) ـــ جمع المِسَاح و المَسَاحی: ہموار زمین، جس میں کنکر ہوں اور پودے وغیرہ نہ ہوں، سرخ زمین۔ المِمْسَح و المِمْسَح الممسحة: جس سے پونچھا جائے۔ جھاڑن۔

۲۔ مَسَحَ ـَـ مَسْحًا و تَمْسَاحًا: جھوٹ بولنا۔ مَسَحَاهُ او مَسَحَ راسَهُ: دھوکا دینے کے لئے کسی سے اچھی باتیں کرنا۔ مَسَّحَ فلانًا: دھوکا دینے کے لئے کسی سے اچھی باتیں کرنا۔ مَاسَحَ مُمَاسَحَةً ہ: کو دھوکا دینا، گمراہ کرنا، بہلانا، کو میٹھی باتوں سے ورغلانا، مصافحہ کرنا۔ ـــہُ علی کذا: سے پر معاہدہ کرنا۔ تَماسَحا: اتفاق کرنا، خرید و فروخت کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ کہا جاتا ہے۔ تماسحوا علی کذا: ہر سب نے عہد و پیمان کیا۔ التقوا فَتَمَاسَحُوا: وہ ملے اور مصافحہ کیا۔ المَاسِح

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(فا): جھوٹا۔ السَیح: جھوٹا۔ الأَمْسَح م مَسْحاء جمع مُسح: جھوٹا۔ التِمْسَح: جھوٹا، نرم بات سے فریب دینے والا۔

۳۔ مَسَح ـ مَسْحًا و مَسَاحَةً الارضَ: زمین کی پیمائش کرنا، تقسیم کرنا، سروے کرنا۔ المِسَاحة. مسح الارض کا مصدر اور اسم۔ زمین کی پیمائش۔ علمُ المِسَاحَة (ح): وہ علم جس میں خطوط، سطوح اور اجسام کی مقداروں سے بحث کی جاتی ہے۔ المَسَّاح: زمین کی پیمائش کرنے والا۔ المَسِیح: بازو۔

۴۔ التِمْسَح: بڑا سرکش۔ ـ و التِمساح جمع تَماسِح و تَمَاسِیح (ح): مگرمچھ

مَسَّحَ ہ: کو ہموار کرنا، کورندہ سے ہموار کرنا، کورندہ کرنا، کو صاف کرنا، صیقل کرنا ـــ ہ من: کو سے محروم کرنا، کو سے بے دخل کرنا، کو سے لینا، کو سے واپس لینا ـــ ہ: (زمین وغیرہ) کا سروے کرنا، کی مالیت اور منافع یا مالگزاری کا سروے کرنا، پیمائش کرنا۔ مَاسَحَ ہ: کی چاپلوسی کرنا، سے میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے مطلب براری کرنا، کو فریب دینا، بہکانا، سے خوشامد سے کام لینا، کو منوالینا، قائل کرلینا۔ تَمَسَّحَ ب: کو غصہ دلانا، طیش میں لانا، سے جھگڑا کرنا۔ لبست المبسوح: راہبہ بن جانا۔ مَسْحَة: رگڑنا، ملنا، سہلانا، صیقل کرنا، ملنا، مالش کرنا، مالش کی دوا، لیپ، ضماد، مرہم، تسکین دینے والا مرہم، حد درجہ تسکین دینے والا مرہم، مقدس، روغن، رنگ کی کمی بیشی، چاشنی، رنگ، ہلکا سا رنگ، جھلک، انداز، نشان، شکل، سایہ، آثار، علامت، ظہور، نقاب، پرت، آڑ، شائبہ، ہلکا سا اثر۔ الدین المسیحی عیسائیت، عیسوی مذہب۔ المسیحیة: مسیحی دنیا، عیسائی، نصارٰی، عیسائیت، نصرانیت، مسیحیت۔ ماسِح: بوٹ پالش کرنے والا۔ ممسوح من المعنی: بے معنی، بیہودہ بکواس، احمقانہ، معنی سے خالی۔

مسخ: ا۔ مَسَخَ ـ مَسْخًا ہُ: کی صورت بگاڑ دینا، کو بری صورت میں بدل دینا۔ کہا جاتا ہے: مسخه اللّٰه قردًا: اللہ اسے بندر کی شکل میں بدل دے۔ صفت مفعولی: مسخ و مَسِیخ جمع مُسُوخ ـ الکاتبُ: کاتب کا کتابت میں بہت غلطیاں کرنا ـــ طعمَ اَللحم: گوشت کو بے مزا کرنا ـــ الناقةَ: اونٹنی کو لاغر کرنا۔ تَمَسَّخَ الغزلُ: سوت کا ٹوٹنا۔ اِمَّسَخَ و انْمَسَخَت العضدُ: بازو کا کم گوشت ہونا۔ اسم مَسْخ۔ المَسْخ: تبدیلی ہیئت، تناسخ۔ المَسِیخ: احمق، بدشکل ـــ من الطعام: بے نمک، بے ذائقہ کھانا۔ المَمْسُوخ (مفع): فَرسٌ مَمْسُوخ: دبلے پتلے والا گھوڑا۔

۲۔ أَمْسَخَ الورَمُ: ورم تحلیل ہونا۔

۳۔ اِمْتَسَخَ السیفَ: تلوار سونتنا۔

۴۔ الأُمْسُوخ (ن): ایک پودے کا نام جس کی جڑ سے کئی شاخیں نکلتی ہیں اور پھل مٹر کے دانے جتنا ہوتا ہے۔

۵۔ المَسْخَرَة جمع مَسَاخِر: ہر وہ چیز جس کی تضحیک کی جائے۔ اضحوکہ، اس سے فعل ہے: مَسْخَرَہ کا تمسخر کرنا، کی ہنسی اڑانا اور تَمَسْخَرَ علی: سے مذاق کرنا، کو چھیڑنا، پر ہنسنا، کی ہنسی اڑانا۔ مساخر: لہو ولغو کی محفلیں۔

مَسَّخَ ـ مَسْخًا ہ من ـ إلی: کو سے میں بدل دینا، کی صورت سے میں بدل دینا ـــ ہ: کی تبدیلی ہیئت کرنا، کو بدل ڈالنا، بدلنا، کو جھٹلانا، کی شکل بگاڑنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کو بگاڑنا، خراب کرنا، ستیاناس کرنا۔ مَسْخ: تبدیلی ہیئت۔ تناسخ، اواگون، تکذیب، توڑ مروڑ کر کے بیان کرنا، دروغ بیانی، غلط بیانی۔ مَسْخ و مِسْخ جمع مُسُوخ: جانور کی شکل میں تبدیل کیا ہوا، بدل شکل، بگڑی ہوئی شکل والا، بدنما کیا ہوا، صورت بگاڑا ہوا، بونا، بالشتیا، عجیب اور خوفناک صورت، بے ہنگم بڑا جسم، عجیب الخلقت، عفریت، راکشس، دیو، بدنفس، شریر انسان۔ مُسْخة. مسخرہ، دل لگی کرنے والا، بھانڈ، نقال، کندہ ناتراش۔ مسیخ: تبدیلی ہیئت کیا ہوا، بگاڑا ہوا، بدنما کیا ہوا، صورت بگاڑا ہوا، بدشکل، بے مزہ، پھیکا، بے لذت، بدذائقہ، بے لطف، روکھا پھیکا، بے نمک، باسی، فرسودہ، خستہ۔ ممسوخ: تبدیلی ماہیت کیا ہوا، بگاڑا ہوا، خراب کیا ہوا، بدشکل کیا ہوا، بدصورت، بدنما کیا ہوا۔

مسد: مَسَدَ ـ مَسْدًا الحبلَ: رسی بٹنا یا عمدہ بٹنا ـــ فی السیر: تھکانا۔ مَسِدَ البطنُ: پیٹ کا نرم و ہموار ہونا۔ مَسَّدَ الشیءَ و علی الشیء: پر سختی سے ہاتھ پھیرنا۔ (عامی زبان میں) المَسَد جمع مِسَاد و اَمْسَاد: کھجور کے ریشے کی رسی، مضبوط رسی، لوہے کا دھرا۔ المِسَاد: شہد کی مشک۔ قوام، بنیاد، درستگی۔ کہا جاتا ہے: هو احسنُ مساد شَعَر منك: اس کے بالوں کی درستگی تیرے بالوں سے اچھی ہے۔ مساق مَسْداء: خوبصورت سیدھی ٹانگ۔ التَمْسِید. جسم پر عضلات کو نرم کرنے اور تیل جذب کرنے کے لئے ہتھیلی کو سختی سے پھیرنا۔ المَمْسُود (مفع) رجُلٌ مَمْسُود: مضبوط، ہٹا کٹا۔

مَسَّد اعضاءَہ: کے اعضاء جسم کی مالش کرنا، ہاتھ پاؤں دبانا، چپی کرنا۔ مَسَد (اسم جمع) جمع مِساد و امساد: کھجور کے ریشے۔ تمسید: بدن کی مالش، چپی۔

مسر: الماسُورة جمع مَوَاسِیر: پائپ، ٹیوب، پانی دینے والی نرم نالی (hose)، پانی کا پائپ، واٹر مین (watermain)، سلائی مشین، بندوق کی نالی، نل، بڑی نالی، پائپ لائن (خصوصا تیل منتقل کرنے کے لئے)۔ المسَّار: بڑی چٹان۔

مسط: ا۔ مَسَطَ ـ مَسْطًا المِعَی: انگلی کے ذریعہ آنت کے اندر کی چیز نکالنا ـــ الثوبَ: کپڑے کو نچوڑنا ـــ السقاءَ: انگلی سے مشکیزہ میں جما ہوا دودھ نکالنا۔ الماسِط (فا): نمکین پانی جو جلاب کے کام آتا ہے (ن) ایک پودا جسے اونٹ چریں تو جلاب کا اثر کرے۔ المَسِیطة: وادی جس میں تھوڑا سا پانی بہہ رہا ہو۔

۲۔ مَسَطَ ـ مَسْطًا فلانًا بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔

۳۔ المَسِیط: کیچڑ، گدلا پانی جو حوض میں رہ گیا ہو۔ المَسِیطة: گدلا پانی۔

مُسْطَرَة جمع مَسَاطِر: نمونہ، مثال۔

مسقط: (عمان کا دارالحکومت اور بندرگاہ)۔

مسع: المِسْع: شمالی ہوا۔ المَسْعِی: بہت چلنے والا اور مضبوط آدمی۔

مسك: ا۔ مَسَكَ ـ مَسْكًا به: سے چمٹنا، متعلق ہونا ـــ بالنار: زمین کے گڑھے میں آگ رکھ کر راکھ سے چھپانا، دفن کرنا ـــ مَسَاكَةً السقاءُ: مشکیزہ کا پانی گرنے نہ دینا۔ مَسَّكَ بہ: سے چمٹنا۔ أَمْسَكَ ہُ: کو روکنا ـــ بہ: سے چمٹنا۔ أَمْسَكَ ہُ: کو روکنا ـــ بہ: سے چمٹنا ـــ الشیءَ علی نفسه: کو اپنے پاس روک لینا ـــ اللّٰهُ الغیثَ: اللہ کا بارش روکنا ـــ عن الکلام: خاموش ہوجانا ـــ عن الامر: سے رک جانا، باز رہنا۔ تَمَسَّكَ و تماسَكَ و اِمْتَسَكَ بہ: سے چمٹنا۔ کہا جاتا ہے: ماتَمَاسَكَ ان قال كذا: وہ یہ کہنے سے نہ رکا۔ غشینی امر مُقْلِقٌ فتماسكتُ: مجھے ایک پریشان کن معاملہ پیش آیا مگر میں نے اپنے آپ پر ضبط کیا۔ مابه تماسُكٌ: اس میں کوئی خیر نہیں۔ اِمْتَسَكَ فی البلد: وہ شہر میں رہا۔ اِسْتَمْسَكَ بہ: سے چمٹنا ـــ عن كذا: سے رکنا۔ اِسْتُمْسِكَ بولُهُ: کا پیشاب بند ہونا ـــ الرجُلُ علی الراحلة: سواری پر جم کر بیٹھنا۔ کہا جاتا ہے: بیننا ما سِكةُ رَحِمٍ: ہمارے درمیان پیچیدہ رشتہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

داری نہیں۔ الآلة الماسكة: بمعنی الالة الممسكة۔ المُسك: بدن کو باقی رکھنے کی مقدار کھانا اور پانی پوری عقل۔ المَسْك (مص) جمع مُسُك و مُسُوك کھال۔ مُسكة: کھال کا ٹکڑا۔ المُسُك بخیل۔ المَسَك واحد مَسَكة: پانی روکنے کا بند، زمین کے طبقات، کنگن یا پازیبیں۔ المُسْكَة جمع مُسَك دستہ، گذارہ، سخت زمین میں کھودا ہوا کنواں، پوری عقل ورائے۔ کہا جاتا ہے: ما فیه مُسْكَة اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ لیس لأمره مُسْكَة اس کے معاملہ کی کوئی قابل اعتماد اصل و بنیاد نہیں۔ فیه مُسْكَةٌ من خیر اس میں بھلائی کا کچھ بقیہ ہے۔ مافی سقائه مُسكة من ماء اس کی مشک میں تھوڑا سا پانی بھی نہیں۔ ـــو المُسُكة: بخل۔ المُسكة جمع مُسَك بخیل، وہ شخص جو کسی چیز سے چمٹے تو اس سے چھٹکارا نہ پا سکے، وہ شخص کہ جب کوئی اس کے مقابل ہو تو بھاگ کھڑا ہو۔ المَسَاك پانی روکنے کا بند، بخل، کنجوسی، المِسَاك بخل، روکنے کی چیز، تلوار وغیرہ کا دستہ۔ کہا جاتا ہے: مافیه مِسَاكٌ: اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ المَسَاكة والمِسَاكة: بخل۔ المُسكان جمع مَسَاكين: بیعانہ۔ المَسَّاك بخیل۔ المَسَّاكات: پانی محفوظ رکھنے کی جگہیں۔ المَسِيك جمع مُسُك و المِسِّيك: بخیل۔ کہا جاتا ہے: سقاءٌ مَسِيك و مِسِّيكٌ: پانی روکنے والی مشک، جو پیاس نہ بجھائے۔ مافیه مَسِيك: اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ المَمْسِكة و الارض المَسِيكَةُ: سخت زمین۔ الإمْسَاك (مص): بخل۔ ـــ عند الرهبان: پرہیزگاری (بعض کھانوں سے پرہیز)۔ المُمْسِك بخیل۔

۲۔ مَسَّكَ هُ: کو مشک کی خوشبو لگانا۔ المِسْك: مشک، کستوری۔ اس کا ایک ٹکڑا مِسْكة کہلاتا ہے۔ مِسْكُ الروم (ن): ایک پھول آور پودا۔ مِسْكُ البَرِّ و مِسْكُ الجن: پودے۔

۳۔ المِسكین والمَسْكَنَة: دیکھو مادہ (سکن)۔ المَسِيكة والمِسْكِية (ن): باغوں میں اگنے والا ایک پودا۔

مَسَكَ ـ مَسْكاً هُ/ب کو لپک لینا، جھپٹ لینا، پکڑ لینا، چھین لینا، کو پکڑنے کی کوشش کرنا، کو قابو میں لانا، پر قبضہ کرنا، کو پکڑے رکھنا، پکڑے رہنا، کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ـــ ب سے چمٹنا، چمٹ جانا، لگا رہنا، سے چپکنا، پر جما رہنا، سے لٹکنا۔ مَسَكَ الحِسَابَاتِ: حساب رکھنا۔ مَسَكَ دفّةَ الأُمور برسراقتدار ہونا، کا نگران ہونا۔ مَسَكَ لِسانَه: زبان پر قابو رکھنا۔

مَسَّكَ ه: کو عطر (مشک) لگانا ـــ ه: کو پکڑانا، تھمانا۔ أَمْسَكَ ه/ب: کو پکڑنا، کو مٹھی میں لینا، کو زور سے پکڑنا، کو ہاتھوں سے جکڑنا، کو شوق سے قبول کرنا، کو مضبوطی سے پکڑنا ـــ ه/ه/ب من: کو سے زبردستی چھیننا ـــ ه من: کو بالوں وغیرہ سے پکڑنا ـــ ه/ه عن: کو سے روکنا یا روکے رکھنا، کو سے قابو میں رکھنا، کو سے باز رکھنا ـــ ه: کو روک لینا، کو خرچ نہ کرنا، صرف نہ کرنا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، محترز رہنا، سے رکنا، کو نہ کرنا، کو ختم کرنا، کرنے سے رک جانا، سے دور رہنا، علیحدہ رہنا ـــ ه علی نفسه. کو اپنے لئے رکھنا، کو اپنے پاس رہنے دینا۔ أَمْسِك علیك اپنے پاس رکھو!۔ أَمْسَكَ نفسَهُ واقِفًا: اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھنا، کھڑا رکھنا۔ أَمْسَكَ بیده: کو ہاتھ سے پکڑنا۔ أَمْسَكَ یدَهٗ: کا ہاتھ پکڑنا۔ أَمْسَكَتْ عن الصُدُور: (اخبار وغیرہ) کا بند ہو جانا، شائع ہونے سے رک جانا۔ أَمْسَكَ لسانَهٗ: زبان کو قابو میں رکھنا۔ أَمْسَكَ البطنَ: قبض کرنا، قابض ہونا۔ تَمَسَّكَ ب: کو مضبوطی سے پکڑنا، کو کرتے رہنا، پر قائم رہنا، سے چمٹنا، چمٹ جانا، سے لگا رہنا، پر قائم رہنا، سے لپٹا رہنا، سے چمٹے رہنا، کو تھامے رہنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، سے وابستہ رہنا۔ تَمَسَّكَ: (قیمتوں کا) چڑھنا، سخت ہونا، مستحکم ہونا۔ تَمَسَّكَ بِأَهْدَابِه: کا سب سے زیادہ جانثار، وفادار، وفا شعار یا وقف وفا ہونا، کے حکم کے ماتحت ہونا، کے زیر اثر ہونا، کے تابع فرمان ہونا۔ تَمَسَّكَ باهداب الشیء: سے چپکنا، پر جما رہنا، سے لگا رہنا۔ تَمَسَّكَ برأیه: اپنی رائے پر قائم رہنا، جما رہنا۔ تَماسَكَ: ایک دوسرے کو تھامے رہنا، مضبوطی سے مربوط ہونا، ایک دوسرے میں پھنسا ہونا، اپنے آپ پر قابو پانا، نڈر یا بے خوف رہنا، خاموش رہنا، پر سکون رہنا، جذبات پر قابو پائے ہونا، اپنے پاؤں پر رہنا، اپنی قوت پر مکمل قابض ہوا ـــ عن: سے باز رہنا، سے احتراز کرنا، اجتناب کرنا۔ إِسْتَمْسَكَ ب: سے چمٹا رہنا، سے لگا رہنا، کو پکڑنا، ہتھیانا، چھیننا ـــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، سے دور ہونا۔ مَسْكُ الدفاتر. کھاتہ نویسی book keeping۔ مَسْكُ الحسابات: حساب رکھنا، حساب کتاب (accountancy)۔ مِسْك: (مذکر و مونث): مشک۔ مِسْكُ الخِتام: سرفراز کرنے والی فنکاری، وہ خوشبو جس سے خط کو بسایا گیا ہو۔ مِسْكَةُ من. کا کچھ، کی چاشنی، جھلک،

marfat.com

مُسكان: زر پیشگی، بیعانہ، سائی، زر ضمانت۔ مِسَاك: ڈمیم، پشتہ، بند، حاشیہ، کنارہ، گوٹ۔ مَسِيك محکم، پکا، طامع، حریص، لالچی، بخیلانہ، پن روک (جس پر پانی اثر نہ کرے)۔ اِمساك: قبض (بیماری) دن کا وقت جو رمضان کے روزہ کے آغاز کی حد بندی کرتا ہے۔ إمْسَاكِية: ماہ رمضان کے دوران روزوں کا کیلنڈر۔ قانونُ التَّمَسُّك: قرض کی ادائیگی میں مہلت یا اس کے التواء کا قانون۔ تَماسُك: پیوستگی، ربط، اتصال، چسپیدگی، ٹھوس پن، مضبوطی، استحکام، استقلال۔

مسل: مَسَلَ ـ مَسْلاً الماءُ: پانی کا بہنا۔ إمْتَسَلَ السیفَ: تلوار سونتنا۔ المَسَل جمع أَمْسِلَة و مُسُل و مُسلان و مسائل: پانی بہنے کی جگہ، نالی۔ المَسِیل جمع مُسُل و اَمْسِلَة: بہاؤ، دودھ یا دہی کا پانی، پانی بہنے کی جگہ، نالی۔

۲۔ مُسالا الرجُلِ: آدمی کے دونوں بازو یا داڑھی کے دونوں پہلو یا کنارے۔ مَسَّالةُ الوجه: بیضوی چہرہ کا حسن۔ المَسِیلُ جمع مُسُل و أمْسِلَة: ترچھڑی۔

مسن: مَسَنَ ـ مَسْنًا الرجُلَ: مخول کرنا ـ هُ: کو مار مار کر گرا دینا ـــ الشیءَ من الشیء: چیز کو چیز سے کھینچ کر نکالنا۔

مسو: ا۔ مَسَا یَمْسُو مَسْوًا الحمارُ: گدھے کا چلتے چلتے اڑ جانا ـــ و مَسَّی تَمْسِیَةً الرجُلَ: کا وعدہ کر کے دیر لگانا۔ أَمْسَی إمساءَ هُ: سے کسی کام وغیرہ کا وعدہ کر کے اس میں دیر لگانا۔

۲۔ مَسّی تَمْسِیَةً هُ: کو دعا دینا کہ اس کی شام اچھی ہو۔ کو کہنا کہ اس نے شام کیسے گزاری۔ کہا جاتا ہے: مَسَّی به اللیلُ: وہ شام کو آیا۔ أَمْسَی إمساءً و مُمْسًی: شام میں داخل ہونا، شام کو ہونا۔ کانَ: کی طرح ناقص کی طرح بھی مستعمل ہے جیسے: اَمْسی زیدٌ ضاحکاً: زید شام کے وقت ہنسا یا ہنسا۔ المساء جمع أمْسِیة والمُمْسیُ والمُسْیُ: شام، دوپہر کے بعد سے مغرب تک کا وقت۔ زوال شمس کا وقت، غروب شمس کا وقت۔ کہا جاتا ہے: یاتینا صباحَ مساءَ بمعنی یاتینا صباحاً و مساءً: وہ صبح اور شام کو ہمارے پاس آتا ہے۔ الأُمْسِیَّة: شام۔ کہا جاتا ہے: أَتیتُهُ أُمْسِیَّةَ أَمسِ: میں اس کے پاس کل شام آیا تھا۔ المُمْسَی (مص): شام گزارنے کی جگہ۔

۳۔ مَاسَی مُماساةً هُ: کا مخول کرنا، کا تمسخر اڑانا۔

۴۔ أَمْسَی إمْسَاءً هُ: کی کسی چیز سے مدد کرنا۔

۵۔ إمْتَسَی إمْتِساءً ماعند فلان: کا سب کچھ لے لینا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۶۔ المَسُوَة: بکری کے بچے کے معدہ کا پنیر، سریانی زبان کا عام بول چال کا لفظ ہے۔ فصیح البِنفحَة و المِنحَة و الإنفحَة ہے۔

مَسَّاك الله بالخير: شام بخیر۔ أَمْسَى: شام میں داخل ہونا، شام کو ہونا یا ہو جانا، ہونا، ہو جانا۔ يفعله اذا أصْبَحَ و يفعله اذا أمْسَى: وہ یہ صبح کو اور شام کو کیا کرتا ہے۔ مساءً: شام کو۔ مَسَاءَ أمْس: کل (گزشتہ) شام، گزشتہ شب۔ مساء الخير یا مسّاكم بالخير: شام بخیر۔ مَسَائي: شام کا، شام کے متعلق۔ الاخبار المسائية: شام کی خبریں۔ اُمْسِيَة جمع اماسِي: شام۔

مَسَى ـ مَسْيًا ہ: (گرمی کا) ڈھور ڈنگروں کو پتلا دبلا کرنا، گوشت نہ رہنے دینا، گھلانا، لاغر کرنا۔ مِسْيُو: مسٹر، سر (جناب) (فرانسیسی لفظ)۔

مسی: ۱۔ مَسَى يَمْسِي مَسْيًا الشيءَ: چیز پر ہاتھ پھیرنا ــــ الحرُّ الماشيةَ: گرمی کا مویشیوں کو لاغر اور کمزور کرنا۔ ــــ السيفَ: تلوار سونتنا۔ تَمَسَّى و تَسَاسَى الشيءُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ التَمَاسِي (مص): مصائب (اس کا مفرد نہیں)۔

۲۔ مَسَى يَمْسِي مَسْيًا الرجل: بد خلق ہونا۔ المَاسِي (فا): کسی کی نصیحت پر توجہ نہ دینے والا۔ رجل ماسِي: پھرتیلا۔

۳۔ اِمْتَسَى اِمْتِسَاءً: پیاسا ہونا۔

مش: ۱۔ مَشَّ ـ مَشًّا الناقة: اونٹنی کو دوہنا اور کچھ دودھ اس کے تھنوں میں چھوڑ دینا، کا سارا دودھ دوہ لینا۔ ــــ مال فلان: کا مال تھوڑا تھوڑا کر کے لے لینا۔ ــــ العَظْمَ: ہڈی کو اطراف سے چوسنا۔ ــــ يدَهُ: ہاتھ کسی چیز سے پونچھنا تاکہ چکنائی زائل ہو جائے۔ ــــ الشيءَ: کو پانی میں حل کرنے کے لئے بھگونا۔ مَشَّشَ العظمَ: ہڈی چوس کر گودا نکالنا۔ أَمَشَّ العظمُ: ہڈی کا گودے والی ہونا۔ اِمْتَشَّ من مال فلان: کے مال سے کچھ حصہ پانا۔ ــــ ما في الضرع: تھن سے سب دودھ نکال لینا۔ ــــ العظمَ: چبائی ہوئی ہڈی کو چوسنا۔ ــــ الثوبَ: کپڑا اتار لینا۔ اِنْمَشَّ لهُ الشيء: کو کچھ حاصل ہونا۔ تَمَشْمَشَ العظمَ: ہڈی چوسنا اور اس کا گودا نکالنا۔ المُشَاش مُشَاشَة کی جمع: نرم زمین، اصل، نفس، طبیعت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لَيِّنُ المُشَاش: فلاں خوش خلق ہے۔ المُشَاشَة جمع مُشَاش: نرم ہڈی کا سرا، خاک اور نرم سنگریزوں کا راستہ جس میں پانی بہنے لگے۔ مُشَاشَة القوم: قوم کے برگزیدہ لوگ۔ المَشّ (مص) کہا جاتا ہے: أطعمهُ مَشًّا: اس نے اسے مزیدار غذا کھلائی۔ المُشُوش: رومال تولیہ وغیرہ۔

۲۔ مَشَّ ـ مَشًّا فلانًا: سے دشمنی کرنا، جھگڑا کرنا۔

۳۔ مُشَاش الرجلِ: سفر و حضر میں انسان کے نوکر اور خادم۔

۴۔ المَشَش: اونٹوں کی آنکھوں میں لاحق ہونے والی سفیدی۔ الأمَشّ م مَشَّاء جمع مُشّ من الابل: اونٹ جس کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہو۔

۴۔ المِشْمِش: واحد مِشْمِشَة (ن): زرد آلو، خوبانی، زرد آلو، خوبانی کا درخت۔

مَشَّ ـ مَشًّا ہ: (ہڈی) کا مغز چوسنا، کوئی چیز پانی میں بھگو کر نرم کرنا، کو پانی میں بھگونا، تر بتر کرنا۔ مِشّ: دودھ یا دہی کا پانی، ماء الجبن۔ مَشُوش: رومال، دستپاک۔

مشج: مَشَجَ ـ مَشْجًا هُ بكذا: کو سے ملانا، خلط ملط کرنا۔ مَشَجَ بينهما: اس نے ان دو چیزوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ المَشْج و المِشْج و المَشَج و المَشِيج جمع أمشاج: ملا ہوا، مخلوط۔ الأمْشَاج: ناف کا میل کچیل۔

مشح: اُمْتُشِحَت السماءُ: آسمان کا ابر سے صاف ہونا۔ ــــت السنةُ: سال کا خشک اور دشوار ہونا۔ المَشْحَة عند المَسِيحين: مریض کو مقدس تیل ملنا۔ اسے مشحة المرضى بھی کہا جاتا ہے۔ مَشَحَ المريضَ: مریض کو مقدس تیل ملنا۔ (سریانی لفظ)۔

مشر: ۱۔ مَشَرَ ـ مَشْرًا: خود پسند ہونا، خود نما ہونا، مغرور و متکبر ہونا۔ أَمْشَرَ بدنهُ: کے بدن کا پھولنا۔ ــــ الرجل: کھل کر دوڑنا۔ الأَمْشَر: چست و چالاک

۲۔ مَشِرَ ـ مَشَرًا الشجرُ: درخت کا کونپلیں نکالنا۔ مَشَّرَ الشيءَ: کو تقسیم کرنا، متفرق کرنا۔ ــــ الشجرُ: درخت کا کونپلیں نکالنا۔ ــــ ہ: کو پہنانا۔ أَمْشَرَت الارضُ: زمین کا کونپلیں نکالنا۔ أَمْشَرَ الشجرُ: درخت کا کونپلیں نکالنا۔ تَمَشَّرَ الرجلُ: دولتمند ہونا، کی دولتمندی کا اثر ظاہر ہونا ــــ لأهله شيئًا: اپنے اہل کے لئے کمائی کرنا، کے لئے کمائی کرنا، کے لئے لباس خریدنا۔ ــــ القوم: کپڑے پہننا۔ ــــ الشجر: درخت کا سرسبز ہونا، کونپلیں نکالنا۔ اِمْتَشَرَ الراعي ورقَ الشجر: چرواہے کا درخت کی ٹہنی کو ٹیڑھے سرے کی لکڑی سے مویشی کی طرف کھینچنا۔ ارضٌ ماشِرَة: بارش سے سیراب سبزہ والی زمین۔ المَشْر: اثر۔ کہا جاتا ہے: اذهبهُ مَشْرًا: اس نے اس کو گالی دی، اس کی ہجو کی اور اس کو بدنام کیا۔ المَشْرَة: نرم، کچی سبز ٹہنیاں، لباس، نیا نکلنے والا پتہ، لکڑی سے جھکائے ہوئے پتے، گھاس جو اونچی نہ ہوئی ہو۔ مَشْرَة الارض: زمین کی نباتات یا نئی نکلی ہوئی سبزی و نباتات۔ کہا جاتا ہے: عليه مشرة غنى: اس پر دولتمندی کا اثر ہے۔ مَشَرَة الارض: زمین کی نباتات یا نئی نکلی ہوئی نباتات۔

۳۔ المِشْر من الرجال: سخت و سرخ آدمی۔

۴۔ المَوْشُور: اس کو "وشر" میں دیکھیں۔

مشط: ۱۔ مَشَطَ ـ مَشْطًا الشعرَ: بالوں میں کنگھی کرنا اور سلجھانا۔ ــــ الشيءَ: کو مخلوط کرنا، ملانا۔ ــــ البعيرَ: اونٹ کو کنگھی نما آلہ سے داغ لگانا۔ مَشِطَ ـ مَشَطًا ــــت الناقةُ: اونٹنی کے دونوں پہلوؤں پر چربی کی تہیں پڑنا۔ مَشَّطَ الشعرَ: بالوں میں کنگھی کرنا اور سلجھانا۔ ــــت الناقةُ: اونٹنی کے دونوں پہلوؤں پر چربی کی تہیں پڑنا۔ اِمْتَشَطَ: بالوں کا کنگھی کیا جانا۔ ــــت المرأةُ: عورت کا اپنے بالوں میں کنگھی کرنا اور انہیں سلجھانا۔ المَشْط: کرگھا، جلاہے کی کنگھی نما کوچی، کنگھی کی شکل کا اونٹ پر نشان، کھرپا، پشت قدم کی پتلی پتلی ہڈیاں یا پشت پا۔ (ح): ایک دریائی مچھلی جسے البُلْطِيّ بھی کہتے ہیں۔ ــــ و المُشْط و المِشْط و المَشْط و المُشُط و المُشْط جمع أمْشَاط و مِشَاط: کنگھی۔ المِشْطَة: کنگھی کرنے کی ایک نوع۔ المِشَاقة: کنگھی کرنے کا پیشہ۔ المُشَاطَة: کنگھی کرتے ہوئے گرنے والے بال۔ المَشَّاط: کنگھی کرنے کا پیشہ کرنے والی۔ المَشَّاط: کنگھی بنانے والا۔ المَشَّاطة: کنگھی کرنے کا پیشہ کرنے والی۔ المَشِيط: کنگھی کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے: شعر مَشِيط و لِمّة مَشِيط: کنگھی کئے ہوئے بال اور گھنگریالے بال۔ المِمْشَط: کنگھی۔ المَمْشُوط (مفع) رجل مَمْشُوط: پتلا دبلا مرد۔

۲۔ مَشِطَ ـ مَشَطًا ت يدُهُ: ہاتھ کا کام کاج کرنے سے کھردرا ہونا یا پھانس چبھنا۔

مَشَطَ ـ مَشْطًا و مَشَّطَ: کنگھی کرنا۔ تَمَشَّطَ و امتشط: اپنے بالوں میں کنگھی کرنا۔ مُشْط جمع أمْشَاط و مِشَاط: کنگھی، گھاس جمع کرنے کا آلہ، کھلانچہ، کھرنچا، چھکا، جیلی، کریدنی، کارتوس کلپ۔ مُشْط الرِّجلِ: پاؤں کی چھت۔ مُشْط اليد: ہتھیلی، کف دست۔ مُشْطِي: دانت دار، دندانہ دار، ناہموار، کنگھی نما۔ تمشيط: کنگھی کرنا، اون تومنا، دھنا۔ مَاشِط: نائی حجام، ہیئر ڈریسر۔ مَاشِطَة: خادمہ، نائن۔ مُمَشَّط: کنگھی کیا ہوا، تومی ہوئی، دھنی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہوئی (ہوتی)۔
منط: مَنَطَ مَنْطًا فلانٌ: مَنِطَ سے پچھلنا۔
مَنْطٌ و مُنُطٌ
کانٹے وغیرہ کا چبھنا۔ کہا جاتا ہے
مَنِطَتْ یدُہٗ: اس کے ہاتھ میں کرچ لگ گئی۔
مَنْطٌ و مِنْطَۃٌ
ہاتھ میں چبھا ہوا کانٹا وغیرہ
لکڑی کے دستے میں لگی ہوئی کڑی کی پچڑ۔
مَنْطَۃٌ ۔ مِنْطَۃٌ: ایک بار۔ نیزہ کا لوہے کا
ٹکڑا جو پکڑنے والے کے ہاتھ میں چبھ جائے۔
۲۔ مَنِعَ مَنْعًا بمکان: کسی شہر کو اقامت کے لئے
پسند کرنا۔
۳۔ مَنِعَ مَنَعًا و مَنَعَتْ المدینۃُ: جانور کا
نمایاں پٹھوں والا ہونا۔
مَنْعَۃٌ: ۔۔۔ بے ہمیز والو ہیں۔
مَنَعَ ۔ مَنْعًا الشیءَ: کو مانا، اچک لینا۔
۔۔۔ الغنمَ: بکری کو دوہنا۔ مَنَعَ القصعۃَ: پیالہ
میں سے سب کچھ چٹ کر جانا۔ مُتَنَعَ ثوبَ
صاحبہٖ: ساتھی کے کپڑے چرالینا۔ ۔۔۔ مافی
الضرعِ او ما فی ید فلان: تھنوں کا سارا دودھ نکال
لینا، کے ہاتھ میں جو کچھ ہو اسے لے لینا۔ ۔۔۔ السیفَ:
جلدی سے تلوار سونتنا۔ اِمْتَشَعَ: بہت کماؤ۔ ذِئْبٌ
مَشُوعٌ: بکری وغیرہ اچک لیجانے والا بھیڑیا۔
۲۔ مَشَعَ مَشْعًا القطنَ: روئی دھننا۔ المُشَعَۃ
والمُشِیعَۃُ: دھنی ہوئی روئی کا گالا۔
۳۔ مَشَعَ مَشْعًا ببولہ: پیشاب کرنا۔ ۔۔۔ فلانًا بالحبل
وغیرہ: کو رسی وغیرہ سے مارنا۔
۴۔ مَشَعَ ۔ مَشْعًا الرجلُ: آہستہ چال چلنا۔
۵۔ مَشَعَ الشیءَ: کو صاف کرنا، پونچھنا۔ تَمَشَّعَ و
اِمْتَشَعَ الرجلُ: تکلیف کو اپنے آپ سے دور کرنا۔
مشغ: مَشَغَ مَشْغًا ہٗ: کو مارنا، پر عیب لگانا۔ ۔۔۔
الرجلُ: ککڑی وغیرہ کی طرح کا آہستہ آہستہ کھانا ۔۔۔
مَشَغَ عِرضَ فلانٍ: کی عزت پر داغ لگانا۔ ۔۔۔
الثوبَ: کپڑے کو سرخ مٹی سے رنگنا۔ المِشْغُ:
المَشْغَۃُ: سرخ مٹی۔ پرانے بوسیدہ کپڑے کا چیتھڑا
مشق: ۱۔ مَشَقَ ۔ مَشْقًا: تیزی سے نیزہ مارنا، کام جلدی
سے کرنا ۔۔۔ الشعرَ: بالوں میں کنگھی کرنا۔ ۔۔۔ الثوبَ:
کپڑا اجاڑنا ۔۔۔ الکتانَ و نحوہٗ: کتان اور دوسرے
کپڑوں کو آلہ میں کھینچ کر صاف کرنا۔ ۔۔۔ ہٗ بالسوط:
کو کوڑے سے مارنا۔ ۔۔۔ الشیءَ: کو لمبا کرنے کے لئے
کھینچنا ۔۔۔ الناقۃَ: اونٹنی کو تھوڑا سا دوہنا ۔۔۔ فی
الکتابۃ: لمبے لمبے حروف لکھنا، جلدی جلدی لکھنا۔ کہا
جاتا ہے: مَشَقُوا رحیلہم: روانہ ہونے میں
جلدی کرنا۔ مَشِقَ ۔ مَشَقًا: رانوں کے رگڑنے سے
سوزش پیدا ہونا، صفت مَشِقٌ و مُشَقٌ: اسم المَشَقَۃُ۔
مَشِقَ مَشَقًا: پتلا ہونے کے ساتھ لمبا ہونا، پتلا اور لمبا
ہونا، دبلا پتلا اور لاغر ہونا۔ صفت مَشْقٌ و مَشِیقٌ و
مَمْشُوقٌ۔ مَشِقَ تَمْشِیقًا لابل انکلا: اونٹوں
کو گھاس چرانا۔ مَاشَقَ مُمَاشَقَۃً: کو گالی دینا، سے
جھگڑا کرنا۔ ۔۔۔ ہٗ الشیءَ: سے چیز کو کھینچنے میں مقابلہ
کرنا۔ اَمْشَقَ ہٗ بالسوط: کو کوڑے مارنا۔ تَمَشَّقَ
الغصنُ: شاخ کا چھلنا۔ ۔۔۔ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔
۔۔۔ اللیلُ: رات کا گزر جانا۔ تَمَاشَقُوا الشیءَ: کو
آپس میں کھینچنا۔ اِمْتَشَقَ: چرانا، اچک لینا۔ ۔۔۔ فی
الشیءِ: میں داخل ہونا۔ ۔۔۔ ما فی الضرعِ: تھن کو
پورا دوہ لینا۔ ۔۔۔ السیفَ: تلوار سونتنا۔ ۔۔۔ الکتانَ:
کتان کو آلہ میں کھینچ کر صاف کرنا۔ ۔۔۔ الشیءَ: کو
مخصوص کرنا۔ ۔۔۔ ما فی ید الرجلِ: کے ہاتھ کی سب
چیزیں لے لینا۔ المَاشِقُ جمع مُشَّقٌ۔ (مص) فا۔ المَشْقُ:
کہا جاتا ہے: فی قدّہٖ مَشْقٌ: وہ دبلا پتلا
اور لمبا ہے۔ المَشْقَۃُ: جانور کے پاؤں میں رسی کا
نشان، ایک بار۔ المَشْقَۃُ جمع مِشَقٌ: روئی وغیرہ کا
گالا، بوسیدہ کپڑا ۔۔۔ و المُشَاقَۃُ جمع مِشَقٌ: کتان
وغیرہ کا نکلا ہوا خراب وردی حصہ۔ المُشْقَۃُ: نئے
کپڑے کا ٹکڑا۔ قلم مَشَّاقٌ: تیز چلنے والا قلم۔
المَشِیقُ: سلا ہوا کپڑا ۔۔۔ من الخیلِ: لاغر و دبلا
گھوڑا۔ التَّمَاشُقُ: جھگڑا۔ المَمْشُوقُ م مَمْشُوقَۃٌ
(مفع): کم گوشت مرد۔ ۔۔۔ من الخیلِ: لاغر گھوڑا۔ ۔۔۔
من القضبانِ: لمبی اور پتلی کٹی ہوئی شاخ۔ قدٌّ
مَمْشُوقٌ: لمبا پتلا قد۔ المِمْشَقَۃُ جمع مَمَاشِقُ:
کتان وغیرہ کو صاف کرنے کا آلہ جو کنگھی کے مشابہ
ہوتا ہے۔
۲۔ اَمْشَقَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ مٹی سے رنگنا۔ المُشْقُ:
سرخ مٹی۔ ثوب مِشْقٌ و مُمَشَّقٌ و اُمْشَاقٌ:
سرخ مٹی سے رنگا ہوا کپڑا۔
○ مَشَقَ ۔ مَشْقًا ہٗ: کو کھینچنا، تاننا، پھیلانا، بڑھانا، لمبا
کرنا، وسیع کرنا، میں کنگھی کرنا، کو پھاڑنا، چیرنا، چاک
کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پرزے پرزے کرنا، کی
دھجیاں اڑانا۔ ۔۔۔ ہٗ: کو کوڑے مارنا، چابک مارنا۔
تَمَشَّقَ: پھٹنا، چرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پرزے
پرزے ہونا۔ اِمْتَشَقَ ہٗ من: سے کو چھین لینا، جھپٹنا
۔۔۔ ہٗ: تلوار سونتنا۔ مَشْقٌ: نمونہ خصوصاً لکھنے میں جس
کی نقل کی جائے۔ مَشِقٌ: دبلا پتلا، نازک اندام،
نازک ... مَشَقٌ مَشْقَۃٌ ...
رگی، پونچھن، صافی، دھنی ہوئی اون کی روئی، کتان کی
روئی، پرانے رسوں کا کتان۔ مَشِیقٌ: دبلا پتلا، نازک،
نازک اندام۔ مُشَاقَۃٌ: کتان کی روئی، پرانے رسوں کا
کتان، پٹ سن کا ریشہ۔ مُشَاقَۃُ حریر: ریشم کی روئی، پرانے
رسوں کا کتان، پٹ سن کا ریشہ ہوا... مَمْشُوقٌ: بِمَشْقٍ:
کاری کاریشمی دھاگہ۔ مَمْشُوقُ القوام: نزاکت،
نازک، دبلا پتلا، نازک اندام۔
چھریری جسم پتلا دبلا۔
مشل: مَشَلَ مَشْلًا لحمُہٗ: کم گوشت والا ہونا
۔۔۔ ت الناقۃُ: تھوڑا دودھ دوہنا۔ ۔۔۔ مشل
السیفَ: تلوار سونتنا۔ ۔۔۔ لاغر کم گوشت والا۔
المَشَلُ: کم دودھ۔ المِمْشَلُ: نرمی سے دودھ
دوہنے والا۔ الممشون: نرمی سے دودھ دوہنے
والا۔ الممشول: لاغر کم گوشت والا۔
۲۔ المشملوز (ن): میٹھی گٹھلی کا زرد آلو، خوبانی۔ (مشمش
ولوز کا مرکب)
مشن: مَشَنَ ۔ مَشْنًا ہٗ: کو خراشیں لگانا ۔۔۔ ہٗ بالسوط
کو کوڑے مارنا۔ ۔۔۔ ہٗ بالسیف: تلوار سے ضرب لگا کر
کھال چھیل دینا۔ ۔۔۔ الناقۃَ: اونٹنی کا سارا دودھ دوہ لینا
صفت مَاشِنٌ جمع مُشَّنٌ۔ مَشَنَتِ الناقۃُ: اونٹنی
کا بے دلی سے دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے: تَمَاشَنَا جلدَ
الظربانِ: دونوں نے ایک دوسرے کو غلیظ ترین
گالیاں دیں۔ اِمْتَشَنَ الناقۃَ: اونٹنی کے تھنوں کا
سب دودھ نکال لینا۔ ۔۔۔ السیفَ: تلوار سونتنا۔
۔۔۔ الشیءَ: کو چھین لینا اور اپنے لئے مخصوص کرنا۔
۔۔۔ ثوبہٗ: کا کپڑا اتارنا۔ المِشَانُ و المُشَانُ: تازہ
کھجوروں یا عمدہ کھجوروں کی ایک قسم۔
مشو: اِسْتَمْشَی الرجلُ: دست آور دوا پینا۔ کہا جاتا
ہے: استمشی بکذا: اس نے مسہل لیا۔ المَشْوُ
و المَشُوُّ و المَشِیُّ و المَشَاءُ: دست آور دوا۔
مشی: ۱۔ مَشَی ۔ مَشْیًا و تَمْشَاءً: چلنا (پاؤں پر) تیز
یا آہستہ۔ ۔۔۔ من مکانٍ الی مکانٍ: ایک جگہ سے
دوسری جگہ چل کر جانا۔ ۔۔۔ مَشَاءً بطنُہٗ: کو اسہال
ہونا، دست آنا ۔۔۔ بالنمیمۃ: چغلی کھانا۔ مَشَّی
الرجلَ: کو چلانا، چلا کر لیجانا۔ ۔۔۔ ہٗ تمشیۃً:
چلنا ۔۔۔ الدواءُ: کو دوا کا دست لانا۔ مَاشَی مُمَاشَاۃً:
کے ساتھ چلنا۔ تَمَشَّی: چلنا۔ تَمَاشَیَا: دونوں کا
اکٹھا چلنا، ساتھ مل کر چلنا۔ المِشْیَۃُ: چلنے کی ہیئت
اور طرز۔ المَاشِی جمع مُشَاۃٌ و مَاشُونَ (فا): چلنے
والا۔ المَشَّاءُ: چغلی کھانے والا۔ المُشَاۃُ من
العسکر: پیدل (چلنے والے) سپاہی۔ مقابل لفظ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الخيّالة گھڑسوار سپاہی۔ الماشِيةجمع مَوَاشٍ: ماشی کا مؤنث۔ المَمّشَاء: بہت چلنے والا، چغل خور۔ المَشّاؤون: ارسطو کے (فلسفہ کے) پیروکار (جو چلتے چلتے تعلیم دیا کرتا تھا)۔ المَشّائية: ارسطو کا فلسفہ۔ المَمْشَى جمع مَمَاشٍ: چلنے کی جگہ، گزرگاہ، راستہ، ڈیوڑھی کا راستہ، غلام گردش، فٹ پاتھ، بین الصفوف راستہ، پگڈنڈی، گلی، کوچہ، سیرگاہ، گشت گاہ۔

۲۔ مَشَى -مَشْيًا و تِمْشَاءً: بہت مویشیوں والا ہونا ـــ مَشَاءَت المرأة او الماشيةُ: عورت یا مویشی کا بہت بچوں والی ہونا۔ اَمْشَــــى: بہت بچوں والے مویشیوں والا ہونا۔ الماشِي: مویشی والا۔ المَاشِيَة جمع مَوَاشٍ: مویشی (اونٹ، گائیں، بکریاں)۔

۳۔ مَشِي -مَشْيًا و تِمْشَاءً زيدٌ: ہدایت پانا۔ اسم: المِشْيَة۔

۴۔ المَشِيَّة مشیت یعنی ارادہ۔

○ مَشَى -مَشْيًا پاؤں پر جانا، چلنا، چہل قدمی کرنا، ڈگ بھرنا، جگہ بدلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، آگے بڑھنا، کوچ کرنا۔ مشى بالنميمة تہمت آمیز افواہیں پھیلانا۔ مشَّى ہ کو جانے یا چلنے دینا، کو لیجانا یا چلانا۔ ـــ ہ مع کو کے مطابق کرنا، موافق کرنا، کو کے ہم آہنگ کرنا، موافق یا مطابق بنانا۔ ماشاہ کے برابر چلنا، سے قدم ملانا ـــ ہ/ہ کے ساتھ جانا، کا ساتھ دینا، کی رفتار سے چلنا، ـــ ہ: کے ساتھ ساتھ یا بدوش رہنا، کے ساتھ رہنا، ـــ ہ فی: میں کسی کا ہم خیال ہونا، میں کسی کے خیالات یا اصولوں سے رہنمائی حاصل کرنا، میں سے مل کر یا اس کے ساتھ ہم آہنگی سے کام کرنا۔ اُمْشَى بمعنی مَشَّى. نیز اَمشاہُ: دوا کا کسی کے لئے دست آور ہونا۔ تَمَشَّى: پاؤں پر جانا، چلنا، چہل قدم کرنا، ہوا خوری کرنا، ٹہلنا، سیر کرنا، پھرنا، • آہستہ چلنا، مٹر گشت کرنا، ٹہلتے پھرنا، ـــ مع: سے ہم آہنگ ہونا، کے موافق یا مطابق ہونا، کے مناسب یا موزوں ہونا، پر پھبنا، سے میل کھانا، پر ٹھیک ہونا، موزوں ہونا، برمحل ہونا، کا جوڑ ہونا، کے مشابہ ہونا، پر پورا اترنا۔ ـــ علی کے مطابق چلنا، آگے بڑھنا، (اصول وغیرہ) کا اتباع کرنا، کی فرمانبرداری کرنا۔ تَمَشَّى في اوصاله: احساس وغیرہ کا کسی کے اعضا میں نفوذ کرنا۔ تَمَشَّى جِيئَةً وَ ذَهَابًا: ٹہلنا، ادھر سے ادھر چلنا، آگے پیچھے چلنا۔ مَشُو قبض کشا دوا، مُلیّن۔ مِشْيَة: چلنے کا انداز، چال، چال ڈھال، قدم، رفتار، وضع، رویہ، وطیرہ، طریقہ، انداز، چلنے کا ڈھب مَشَّاء جمع مَشَّاؤون: اچھا چلنے والا، چلنے والا۔ مَشَّايَة جمع مَشَّايات: لمبا اور تنگ قالین، بے بی واکر، baby walker۔ ڈیوڑھی کا راستہ، غلام گردش، بین الصفوف راستہ پگڈنڈی، فٹ پاتھ، گزرگاہ۔ مَمْشَى جمع مَمَاشٍ: ڈاوڑھی کا راستہ، غلام گردش، بین الصفوف راستہ، گزرگاہ، فٹ پاتھ، پگڈنڈی، گلی، کوچہ، سیرگاہ، گشت گاہ، چوراہا، پل، بالائی پلی، بحری جہاز کا پل، چھوٹا کمبل۔ تَمَشِّيًا مع: کی تعمیل میں، کے مطابق۔ ماشٍ جمع مُشَاة جانے والا، چلنے والا، پیدل (چلنے والا)، پیدل فوجی انفنٹری کا فوجی۔ المُشَاة: پیدل فوج، پیادہ فوج (infantry)۔ ماشياً: پیدل (چلتے ہوئے) مَاشِيَة جمع مَوَاشٍ: ڈھور ڈنگر، مال مویشی (livestock)۔

مصّ: ۱۔ مَصَّ -مَصًّا و تَمَصَّصَ و امْتَصَّ الشيءَ: کو چوسنا۔ اَمَصَّهُ اللبنَ: کو دودھ چسانا۔ المَصّ (مص) قَصَبُ المصّ (ن): گنا، نیشکر۔ المُصَّة والمُصَاص من الشيء: منتخب یا خالص چیز، سب سے اہم بات۔ فلان كريمُ المُصَاصِ و مُصَاصُ قومه: فلاں شخص اپنی قوم میں سب سے خالص النسب ہے۔ (واحد، تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث یکساں ہیں)۔ المُصَاصَة: چوسی جانے والی چیز۔ المَصَّاص: بہت چوسنے والا، پچھنے لگانے والا، سینگی لگانے والا۔ المَصَّان: پچھنے لگانے والا، سینگی لگانے والا، کمینہ، لئیم، کمینہ پن کی وجہ سے بھیڑ بکریوں کے تھنوں پر منہ لگا کر چوسنے والا مرد کو یامَصَّان اور عورت کو یامَصَّانَة کہہ کر گالی دی جاتی ہے۔ المُصَّان (ن): گنا، نیشکر۔ المَصُوص جمع مَصَائص: سرکہ میں ڈالا جانے والا پکا ہوا گوشت۔ المَصِيص (ت): مضبوط دھاگوں کی ایک قسم۔ لمَصِيصَة: پیالہ۔ المِمَصّ: چوسنے کا آلہ۔

۲۔ مَصْمَصَ الماءَ: پانی کو زبان سے ہلانا ـــ الثوبَ: کپڑا دھونا۔ المُصَامِص. خالص چیز۔ کہا جاتا ہے: انه لَمُصَامِصٌ فی قومه: وہ خالص حسب نسب والا ہے۔

○ مَصَّ -مَصًّاہ کو چوسنا، کی چسکی لگانا، کو سڑکنا، کا سڑپا لگانا، کو چپڑ چپڑ پی جانا، کو چاٹنا، کو بھگونا، کو جذب کرنا، نچوڑنا۔ تَمَصَّصَ ہ: کی آہستہ آہستہ چسکیاں لگانا، کو چھوٹی چھوٹی چسکیوں میں پینا۔ اِمْتَصَّ ہ کو چوسنا، کی چسکیاں لگانا، کو سڑکنا، کا سڑپا لگانا، کو چپڑ چپڑ پی جانا۔ کو چاٹنا، کو بھگونا، تربتر کرنا، پی لینا، جذب کرنا، ہڑپ کرنا۔ مَصَّاص: چوسنے والا، پچھنے لگانے والا، سینگی لگانے والا، خون چوسنے والا، خون آشام دھمکی سے یا جبراً لینے والا، سود خور بنیا مہاجن۔ مَصَاصة القصب: گنے کا چورہ۔ مَصَّاصة: زور سے چیخنے والا الو، سوتوں کا خون چوسنے والی بلا (vampire)۔ مَصِيص: نیم گیلا، تر بھیگا، ہوا مرطوب، سیلا (میدان وغیرہ)۔ مِصِّيص: ڈوری، رسی، سُتلی۔ مِمَصّ: پچکاری کی نالی، چوسنے کی نالی، سیفن، خمدار نلکی۔ اِمتصاص: چوسنا، جذب کرنا، خلا پیدا کر کے کھینچنا یا ملانا، کشش، بھیگنا یا بھگونا، تر بتر کرنا یا ہونا، جذب کرنا، پی جانا۔ قوة الامتصاص: کشش، خلا پیدا کر کے کھینچنے یا ملانے کی قوت۔ مَمصُوص: بھیگا ہوا، تر بتر کیا ہوا، نالی یا پمپ کے ذریعے نکالا ہوا، خالی کیا ہوا، دبلا کیا ہوا، لاغر کیا ہوا، گھلا ہوا، بہت کمزور، دبلا پتلا۔ مُمْتَص. بھگونے والا، تربتر کرنے والا، جذب کرنے والا، پی جانے والا، چوسنے والا، جاذب، کھینچنے والا۔

مصح: ۱۔ مَصَحَ -مَصْحًا و مُصُوحًا الشيءُ: جاتا رہنا، منقطع ہونا۔ ـ بالشيء: کو لے جانا ـ ت الدارُ: گھر کا نشان مٹ جانا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا۔ ـــ النباتُ: شگوفہ کا مرجھانا۔ ـــ الکتابُ: کتاب کا مٹنا ـــ لبنُ الناقة: اونٹنی کے دودھ کا سوکھ جانا ـــ اللّٰهُ مرضك: اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری دور کرے ـــ و مَصِحَ -مَصَحًا الظلّ: سایہ کا چھوٹا اور پتلا ہونا صفت اَمْصَح ۔ اَمْصَحَ اللّٰه مَرَضَكَ: اللہ تعالیٰ تیری بیماری دور کرے۔

۲۔ المُصَاحات: بھوسے سے بھری ہوئی اونٹنی کے بچوں کی کھالیں۔

مصخ: مَصَخَ -مَصْخًا الشيءَ: کو کھینچنا۔ تَمَصَّخَ الشيءَ: کو کھینچ کر نکالنا۔ اِمْتَصَخَ الشيءَ: کو کھینچ کر نکالنا۔ ـــ الشيءُ عن الشيء: چیز کا چیز سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ اِمَّصَخَ الولدُ: بچہ کا ماں کے پیٹ سے جدا ہونا۔ المُصَّاخ (ن): ایک پودا جس کے چھلکے پیاز جیسے ہوتے ہیں۔ المَصُوخة: بکری جس کے تھن کی جڑ ڈھیلی پڑ گئی ہو۔ الأُمْصُوخة جمع اُمْصُوخ و أماصِيخ: بردی سفید گھاس کا گودا، ایک قسم کی گھاس کا پتہ جو لمبی نہیں ہوتی۔ ایک قسم کا عمدہ چارہ۔

مصد: ۱۔ مَصَدَ -مَصْدًا الصبيُّ ثدیَ امه: بچہ کا ماں کے پستان سے دودھ پینا ـ الشيءَ: کو چوسنا۔

۲۔ مَصَدَ -مَصْدًا الرجُلَ: کو مطیع و فرمانبردار کرنا۔

۳۔ المَصَاد جمع أَمْصِدَة و مُصْدان: بلند پشتہ، پہاڑی، پہاڑ کی چوٹی۔ المَصْد و المَصَد: گرمی کی شدت، سردی کی شدت، رعد اور بارش، اونچی پہاڑی۔ المَصْدَة: بارش۔ کہا جاتا ہے: ما اصابتنا مَصْدَة: ہمارے علاقہ میں بارش نہیں ہوئی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مصر: ۱۔مَصَرَ ـمَصْراً الناقةَ: اونٹنی کو انگلی کے پوروں سے دوہنا۔مَصَّرَ العطِيَّةَ: بخشش کو بند کرنا یا تھوڑا تھوڑا کر کے دینا۔تَمَصَّرَ الشیءُ او العطاء: چیز کا یا عطاء کا کم ہونا۔ ـــ الناقةَ: اونٹنی کو انگلیوں کے پوروں سے دوہنا۔اِمْتَصَرَ الناقةَ: اونٹنی کو انگلی کے پوروں سے دوہنا۔ناقةٌ او شاة مَاصِرٌ: کم دودھ والی اونٹنی یا بکری یا وہ اونٹنی یا بکری جس کا دودھ دیر سے نکلتا ہے۔المَصُور جمع مِصَار و مَصَائر من الابل او الشاء: تھوڑا دودھ یا دیر سے دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری۔عطاءٌ مَصُور: کم بخشش۔

۲۔مَصَّروا المكانَ: کسی جگہ کو شہر بنانا۔تَمَصَّرَ المكانُ: جگہ کا شہر بن جانا۔ــ القومُ: قوم کا پراگندہ ہونا۔ ــ الشیءَ: کے پیچھے لگنا، کو تلاش کرنا۔المَاصِر (فا) دو چیزوں کے درمیان کی روک۔المِصْر جمع أَمْصَار و مُصُور: دو چیزوں کے درمیان کی روک۔ دو ملکوں کے درمیان کی سرحد، شہر، ملک، علاقہ۔ مِصْر: مصر (ایک ملک کا نام)۔المِصْرَان: کوفہ و بصرہ۔المِصْرِی م مِصْرِيَّة جمع مَصَارٍ و مَصَارِيّ: مصر سے منسوب۔کہا جاتا ہے۔حُمُرٌ مَصَارٍ و مَصَارِيٌّ: مصری گدھے۔

۳۔مَصَّرَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ مٹی سے رنگنا یا گیرو رنگ دینا۔المِصْر: سرخ مٹی۔المُمَصَّر: گیرو سے رنگا ہوا۔ المُمَصَّرة۔ مُمَصَّر کا مؤنث۔

۵۔المَصِير جمع أَمْصِرة و مُصْران و جج مَصَارِين (ع ا): آنت۔المُمَصَّرة: کتے ہوئے سوت کا گولا۔

مَصَّر ہ: کسی جگہ کی بنیاد رکھنا، کو تعمیر کرنا، میں رہنے لگنا، آباد ہونا، کو نو آبادی بنانا، میں آباد کاری کرنا، کو مصری بنانا۔تَمَصَّر: ایک آباد اور متمدن و مہذب علاقہ ہو جانا، ایک بڑا شہر ہو جانا، عروس البلد ہو جانا، مصری ہو جانا، مصری طریقے اختیار کرنا، مصری بن جانا۔مِصْر جمع أَمْصَار: بڑا شہر، عروس البلاد، دار الحکومت، مصر (عام بول چال میں مصر): قاہرہ۔ مصر القاهرة: قاہرہ مصر الجديدة: ہیلیو پولس (قاہرہ کا نیا حصہ)۔مصری: قاہری مصری، مصر کا مصر سے متعلق جمع مصریون: مصری، قاہرہ کا باشندہ۔ مِصْرِيَة: مصریت۔مصر کا قومی کردار جمع مِصْرِيَات: مصری عورت یا لڑکی۔مصير جمع أَمْصِرَة و مُصْرَان و مَصَارين: آنتیں، معدہ، أمعا جمع آنتیں، امعا، اوجھڑی۔تمصير: آبادی کاری کرنا، نو آبادی، آباد کاری، استعمار، تہذیب، تمدن، مصری بنانا۔مُتَمَصِّر: مصری بنا ہوا، مصر میں قومیا ہوا۔

مصط: مَصْطَكَ الدواءَ: دوا میں مصطگی ملانا۔ المَصْطَكَى والمُصطَكَى والمُصْطَكاء (ن): مصطگی کا درخت جس سے گوند نکالی جاتی ہے۔

مَصْطَكاءَ و مُصْطَكاء و مَصْطَكَى: مصطگی، مصطگی درخت کی گوند یا رال، مصطگی سے کشید کیا ہوا عرق۔ شَجَرةُ المُصْطَكاء: مصطگی کا درخت۔

مصع: ۱۔مَصَعَ ـمَصْعًا البرقُ: بجلی کا کوندنا، چمکنا۔ـــت الدابةُ بِذَنَبِها: جانور کا دم ہلانا۔ــ فُلانًا: کو کوڑے وغیرہ سے مارنا۔ــ الفرسُ: گھوڑے کا ہلکی رفتار سے گزرنا۔ــ الطائِرُ بذرقه: پرندے کا بیٹ کرنا۔ـــت المرأة بالولد: عورت کا بچہ گرانا۔ــهُ: کی تربیت کرنا، کو تجربہ کار بنانا۔مَاصَعَ مِصَاعًا و مُمَاصَعَةً: جنگ کرنا، قتال کرنا۔قِرنَهُ: مقابل کو تلوار وغیرہ سے مارنا۔ــ بلسانِهِ: پر تہمت لگانا۔أَمْصَعَ الطائِر بذرقه: پرندے کا بیٹ کرنا۔ـــت المرأة بولدها: عورت کا بچہ گرانا۔تَمَاصَعَ القومُ فی الحرب: آپس میں جھگڑنا، باہم جنگ کرنا۔اِنْمَصَعَ الحمارُ: گدھے کا اپنے کانوں کو کھڑا کرنا۔المَاصِع (فا) م مَاصِعَة: چمکیلا۔المَصْع (مص): ہانکنا۔ المَصِع: تلوار سے لڑنے والا۔

۲۔مَصَعَ ـمَصْعًا فؤادُ فُلانٍ: خوف یا جلدی سے دل کا پراگندہ ہونا۔ــ مُصُوعًا الرجُلُ فی الارض: زمین میں دور تک چلے جانا۔ــ لبنُ الناقة: اونٹنی کے دودھ کا خشک ہونا یا کم ہونا۔مَاصِع و ماصعة: خشک یا کم دودھ والی اونٹنی۔ــ ماء الحوض: حوض کا پانی کم ہو جانا۔أَمْصَعَ القومُ: بے دودھ اونٹنیوں کا مالک ہونا۔ـــت المرأة ولدَها: عورت کا بچے کو دودھ کم پلانا۔اِنْمَصَعَ فی الارض: زمین میں جانا، سفر کرنا۔اِمْتَصَعَ فی الارض: زمین میں جانا، سفر کرنا۔المَاصِع م ماصِعَه: پشت پھیرنے والا، تھوڑا اور گدلا۔المَصُوع: ڈرپوک۔

۳۔مَصَّعَ القضيبَ: کاٹی ہوئی شاخ پر چھلکا سوکھنے کے لئے رہنے دینا۔

۴۔أَمْصَعَ العوسجُ: عوسج درخت کا پھل لانا۔المُصْعَه والمُصَعَة جمع مُصْع و مُصَع (ز): عوسج درخت کا پھل۔

۵۔أمْصَعَ لفلانٍ بحقّهِ: کے حق کا اقرار کرنا۔

۶۔الماصِع م مَاصِعَة: کھارا پانی۔المَصِع: کوڑے سے کھیلنے والا لڑکا۔المُصْعَة والمُصَعِة جمع مُصَع و مُصَع: ایک چھوٹا پرندہ

مصل: مَصَلَ ـمَصْلاً اللبَنَ: پانی ٹپکانے کے لئے دودھ کپڑے میں لٹکانا۔ــ مالَهُ: بے خیر کاموں میں مال خرچ کرنا۔ ـــ مَصْلاً و مُصُولاً الجبنُ و نحوُهُ: پنیر وغیرہ کا ٹپکنا۔ــ الجرحُ: زخم کا رسنا۔ أَمْصَلَ الغنَمَ: بکری کا سارا دودھ دوہنا۔ــ مالَه: مال کو بے فائدہ خرچ کرنا، لغویات میں اڑانا۔ـــت المرأةُ: عورت کا قبل از وقت بچہ گرا دینا، ادھورا بچہ گرانا۔صفت مُمْصِل۔ المَصْل (مص) من اللبن و نحوه: دودھ وغیرہ سے ٹپکا ہوا پانی۔ (طب): ایک سیال دواء جو انجکشن لگانے کے کام آتی ہے۔المَصَالة، بمعنی مَصْل المُصَالَة بمعنی مَصْل۔ مٹکے وغیرہ سے ٹپکا ہوا پانی۔الماصِل (فا): تھوڑا دودھ یا بخشش۔المَصْلاء: پتلے بازوؤں والی عورت۔المِمْصَل: دودھ سے پانی ٹپکانے کا برتن۔ لغویات میں مال برباد کرنے والا۔

مَصَلَ ـمَصْلاً: دہی جمنا۔...... ہ: کو چھاننا، کو فلٹر کرنا، ٹپکانا۔مَصْل: دودھ یا دہی کا پانی۔ماء الجبن جمع مُصُول: ماء الدم، جو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔سیرم (serum)۔مَصْلِی: پتلا، رقیق، لعابی سا (serous)۔خوناب سے مشابہ۔

مض: ۱۔مَضَّ ـمَضًّا و مَضِيضًا الجرحُ فلانًا: کو زخم کا تکلیف دینا، درد میں مبتلا کرنا۔ــ الكحلُ العينَ بمدَّتِهِ: سرمے کا آنکھ دکھ دینا اور آنکھ میں سوزش پیدا کرنا۔ـــ الخلُّ فاهُ: سرکہ کا منہ کو جلانا۔ـــ مَضًّا الشیءُ فلانًا: چیز کا کسی کو دکھ پہنچانا۔ــ مَضَضًا من الشیء: سے دردمند ہونا۔ـــ مَضَضًا و مَضَاضَةً و مَضِيضًا: کسی مصیبت سے دکھی ہونا۔ کہا جاتا ہے مَضِضْتُ للامر: مجھے اس بات پر دکھ ہوا۔مَضَّضَ تمضِيضًا: ترش دودھ پینا، کھارا پانی پینا۔مَاضَّ مِضَاضًا هُ: کو لعنت ملامت کرنا۔أَمَضَّ هُ الامرُ: کو کسی بات کا جلانا اور اس پر گراں گزرنا۔ــهُ الجرحُ و نَحوهُ: کو زخم وغیرہ کا تکلیف دینا، درد میں مبتلا کرنا۔کہا جاتا ہے أَمَضَّنِی كلامُ فلان: مجھے فلاں شخص کی گفتگو سے تکلیف ہوئی۔ــهُ جلدُهُ: کو کھجلی ہونا۔تَمَاضَّ القومُ: آپس میں جھگڑنا۔ المَضّ: مص۔ کحلٌ مَضٌّ: تیز اور تکلیف دہ سرمہ۔رجُلٌ مَضُّ الضرب: تکلیف دہ ضرب والا۔ المَضَّة مَضّ کا مؤنث۔ایک بار۔امرأةٌ مَضَّةٌ: وہ عورت جو کسی تکلیف دہ شے کو برداشت نہ کر سکے۔ ألبانٌ مَضَّةٌ: ترش دودھ۔المَضَض (مص): مصیبت کا درد، دکھ، ترش یا کھٹا دودھ۔المَضَاض:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جلن، سوزش۔ المُضَاض نہ پیا جا سکنے والا کھاری پانی، آنکھ کی سوزش و جلن۔ المَضَاض جلانے والا۔

۲۔ مَضَّ ـمَضًا الشیءَ: کو چوسنا۔

۳۔ مِضُّ و مِضَّ و مِضِّ (مبنی حالت میں) اور مِضٍّ تنوین کی حالت میں: لا کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رضامندی کی امید دلاتا ہے: اِنّ فی مِضٍّ لطمعًا 'نہیں' میں بھی امید کا پہلو ہے۔ المِضُّ ہونٹوں سے نہیں جیسا لفظ کہنا اور کچھ امید بھی دلانا۔ المضاض: خالص، مخلص کہا جاتا ہے: فلانٌ من مُضَاض القوم فلاں شخص قوم کا مخلص ہے۔

۴۔ مَضْمَضَ مَضْمَضَةً و مَضْماضًا و مِضماضًا الماءَ فی فیه: کلی کرنا۔ ــالثوبَ وغیرَهٗ: کپڑا وغیرہ دھونا۔...... النعاسُ فی عینیه اونگھ کا آنکھوں میں سرایت کرنا۔ تمضمض النعاسُ فی عینیه: اونگھ کا آنکھوں میں سرایت کرنا۔ ــالکلبُ فی اثره: کتے کا کسی کے پیچھے بھونکنا۔ المِضْمَاض جلن، پھرتیلا آدمی، نیند۔ المَضْمَضَة (مص) سانپ وغیرہ کی آواز، نیز سانپ کے زبان کو ہلانے کو مضمضة کہا جاتا ہے۔

○ مَضَّ ـمَضَضًا و مَضِیضًا ہٗ: کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کو جلانا، ڈنک مارنا، ڈسنا، کاٹنا ـــــہ ب کو سے تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، ایذا دینا، دق کرنا۔ ــ مضضا و مَضِیضا و مَضاضةً تکلیف میں ہونا، درد محسوس کرنا، مصیبت اٹھانا، پریشان ہونا، فکروں میں گھلنا، مصیبت میں ہونا۔ اَمَضَّ ہٗ کو تکلیف پہنچانا، کو نقصان پہنچانا، کو دکھ دینا، تڑپانا۔ مَضَض درد، دکھ، تکلیف، عذاب، اذیت، روحانی اذیت، انتہائی جسمانی یا ذہنی تکلیف، ذہنی کرب، تکلیف دہ، تکلیف رساں، پردرد، جلتا ہوا، چبھتا ہوا، درد کرنے والا۔ مضض تکلیف مصیبت، جسمانی یا روحانی اذیت سے درد و کرب، شدید جسمانی یا روحانی اذیت (ذہنی) کوفت، سوہان روح، رنج والم، دکھ، درد، کھٹا دودھ۔ علی مضض ناررضامندی سے، بیدلی سے، بادل ناخواستہ، ہچکچاہٹ سے۔ مُضَاض کھاری پانی، نمکین پانی۔ مَضاضة روحانی اذیت، شدید جسمانی و روحانی اذیت۔ مُمِضّ ذہنی کوفت کا موجب، موجب اذیت۔

مضح: مَضَحَ ـمَضْحًا و اَمْضَحَ عِرضَہٗ: پر عیب لگانا۔ ـــعنه: سے آہستہ آہستہ دور چلا جانا ـــت الشمسُ: سورج کی شعاعوں کا زمین پر پھیلنا ـــت الابلُ: اونٹوں کا بکھرنا ـــت المزادۃُ: توشہ دان کا رسنا۔ اَمْضَحَ عِرضَہٗ: پر عیب لگانا۔

مضد: مَضِدَ ـمَضَدًا: کینہ رکھنا۔

مضر: مَضَرَ ـو مَضُرَ ـو مَضِرَ ـمَضْرًا و مَضَرًا و مُضُورًا النبیذُ او اللبنُ: نبیذ یا دودھ کا ترش ہونا۔ مَضَّرَہٗ: کو قبیلہ مضر سے منسوب کرنا، کی نسبت قبیلہ مضر کی طرف کرنا ــمُضَرَ: کو ہلاک کرنا۔ تَمَضَّرَ: قبیلہ مضر کی طرف منسوب ہونا یا اس کے ہمرنگ ہونا اور ان کی طرف داری کرنا۔ لبنٌ مَاضِرٌ کھٹا دودھ۔ کہا جاتا ہے: ذهبُ دمُهٗ خِضراً مِضراً: اس کا خون رائیگاں گیا۔ لبنٌ مَضِرٌ: کھٹا دودھ۔ کہا جاتا ہے: ذهب دمه خِضراً مَضِراً اس کا خون رائیگاں گیا۔ المُضارَة من اللبن: ترش دودھ کا پانی۔ لبنٌ مَضِیر: کھٹا دودھ۔ المَضِیرَة (ط) ترش دودھ میں پکا ہوا کھانا۔

۲۔ مَضَرَ اللّٰهُ له الثناءَ: اللہ تعالیٰ نے اسکی اچھی تعریف بنائی۔ تَمَضَّرت الماشیةُ: مویشی کا فربہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: اخذهٗ خِضراً مِضراً: اس نے وہ چیز نرم و تازہ لی یا بلا قیمت لی۔ عیشٌ مَضِرٌ آسودہ زندگی۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَهٗ خَضِراً مَضِراً: بمعنی اَخذهٗ خِضراً مِضراً۔

○ مَضِر و ماضِر: کھٹا دودھ۔ لغةُ مُضَر: مضر کی زبان، عربی زبان۔

مضغ: مَضَغَ ـمَضْغًا الطعامَ: کھانا چبا کر کھانا۔ مَضَّغَهُ الشیءَ: کو کوئی چیز چبوانا۔ مَاضَغَ القتالَ او الخصومةَ: سے دیر تک لڑنا یا جھگڑنا۔ اَمْضَغَهُ الشیءَ: کو کوئی چیز چبوانا۔ ــالتمرُ: کھجور کا چبانے کے قابل ہونا ــاللحمُ: گوشت کا لذیذ ہونا اور کھایا جانا۔ المَاضِغ جمع مُضَّغ فا الماضِغان والماضغتان دونوں تالو۔ المُضْغَة جمع مُضَغ گوشت وغیرہ کا ٹکڑا جو چبایا جائے۔ مُضَغُ الامور و الجراحات: چھوٹے اور معمولی کام یا زخم۔ المَضَاغ چبانا، چبائی جانے والی چیز۔ کہا جاتا ہے: ماعندنا مَضَاغ ہمارے پاس کوئی چبائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ المُضَاغة چبائی جانے والی، چبائی ہوئی چیز کا منہ میں بقیہ۔ المَضَّاغة احمق، بہت چبانے والا۔ المَضِیغ جمع مَضِیغ و مَضَائغ ہڈی پر کا گوشت، جبڑا، عضلہ۔ المَوَاضِغ داڑھیں۔

○ مَضَغَ الکلامَ: حروف کی آوازوں کو اس طرح ملانا کہ سمجھ میں نہ آئیں، گڈمڈ بولنا، غیر واضح بات کرنا۔ مُضْغة جمع مُضَغ چبائی جانے والی چیز، کٹا ہوا ٹکڑا، لقمہ، نوالہ، ایک بار منہ میں رکھنے کا کھانا، گوشت کا چھوٹا ٹکڑا، جنین، کچا بچہ، ادھورا یا ناقص بچہ، چبانے والی گوند۔ مُضْغَة طَیِّبَة: چٹپٹی خبر، تر نوالہ، مزیدار چیز۔ جَعَلَهٗ مُضْغَةً فی الأفواه: کو ہر ایک کی زبان پر لے آنا، کا گھر گھر چرچا کرنا۔ مَضَاغة: چبائی جانے والی چیز۔

مضی: مَضَی یمضِی و مَضَا یَمْضُو مُضُوًّا و مُضِیًّا الشیءُ: گذر جانا، جانا، چلا جانا۔ مُضُوًّا سَبِیلَهٗ و لسبیله: مر جانا۔ ـمَضَاءً و مُضُوًّا علی الامر: کو جاری رکھنا، کو پورا کرنا، پورے کئے ہوئے کام کو امر مَمْضُوّ علیه کہتے ہیں۔ ــعلی البیع: سودا کرنا۔ مَضِیَ ـمَضَاءً السیفُ: تلوار کا قاطع ہونا، کاٹنا۔ مَضَّی تَمْضِیَةً الامرَ: کو نافذ کرنا۔ اَمْضَی امضاءً الامرَ: کو نافذ کرنا۔ کہا جاتا ہے: امضی الحاکم حکمَهٗ: حاکم نے اپنا حکم نافذ کیا۔ ــالبیعَ فرخت طے کرنا۔ امضاءُ الصکوكِ و الرسائل دستاویزات اور چٹھیوں کی دستخطوں کے لئے تکمیل۔ کہا جاتا ہے: اَمضیتُ له: میں نے اس کو تھوڑی غلطی پر چھوڑ دیا تا کہ وہ اس کے عروج پر پہنچ کر سزا پائے۔ تَمَضَّی الامرُ: نافذ ہونا، جائز ہونا، قانونی ہونا۔ ــ الرجُلُ آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے: مَضَی علی مُضْوَائه: اپنی پیش قدمی کو کامیابی سے پورا کیا۔ المُضَوَاءُ آگے بڑھنا۔ الماضی (فا جمع مَوَاضٍ: گزشتہ زمانہ، تلوار۔ فعل ماضی۔ المَضَاء: باعزم۔ کہا جاتا ہے: انت مضاء علی ما عزمتَ علیه: تم اپنے ارادہ کو پورا کرنے والے ہو۔ الِامْضَاء: دستخط۔

○ مضی ـمُضِیًّا: جانا، روانہ ہونا، بھاگ جانا، فرار ہو جانا، روپوش ہو جانا۔ ـــبکو لے کر چلے جانا، کو اٹھا لیجانا۔ ـــ: (وقت کا) گزرنا، وقت ختم ہونا، ــفی میں پیش قدمی کرنا، ترقی کرنا، بہتر ہونا ــفی/ ب کو کرتے رہنا، کو جاری رکھنا، ـــفی کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا، کو حاصل کرنا، کے لئے جدوجہد کرنا، کے حصول کے پیچھے لگے رہنا، کی مشق کرنا، کی مزاولت کرنا، کوئی کام کرنا، میں اندر تک گھس جانا، داخل ہونا، چلے جانا۔ علی: کو ختم کرنا، انجام دینا، مکمل کرنا، حکم بجالانا، حکم کی تعمیل کرنا۔ ــیفعل کو کرنے لگنا، کو کرتے رہنا۔ مَضَاءٌ (تلوار وغیرہ کا) تیز ہونا، قاطع ہونا۔ مضی سبیلَهٗ مر جانا۔ مضی لسبیله مر جانا۔ مضی علی البیع: کوئی سودا کرنا۔ مضی علی ذلك شهورٌ اس وقت سے کئی مہینے گزر گئے۔ مضی فی کلامه بولتے رہنا۔ مَضَی ما مَضَی گزشتہ را صلوات (let bygones be bygones)۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فیما مضی یا فیما مضی من الزمان۔ پہلے، پہلے زمانہ میں، ایک دفعہ، ماضی میں لـم یـمـضِ غیـر قلیلٍ حتّی جلدی ہی مـن سنۃ مَضَتْ ایک سال پہلے وـمَـضَـی فقال اور وہ کہتا رہا، اس نے مزید کہا مَضَی۔ گزارنا فی وقت صرف کرنا، گزارنا (کے ساتھ) ـأمْضَی ہ وقت صرف کرنا، گزارنا ـ ہ کو بجالانا، کوعمل میں لانا، سرانجام دینا، مکمل کرنا، ختم کرنا، طے کرنا ـ ہ امتحان پاس کرنا ـ ہ پر دستخط کرنا ـ أمْضَی أمرہُ علی کے پیچھے اپنی مکمل تائید رکھنا، کی مکمل تصدیق کرنا ـ مُضِیُّ المدّۃ وقت کا گزر جانا، پیرانہ سالی ـ التملك بمُضِیِّ المُدّۃ حق بذریعہ قبضہ، حق قدامت ـ علی مضیّ الزَّمان دائمی طور پر، مستقل طور پر ـ المضی فی الحرب جنگ کا جاری رہنا، جنگ کا تسلسل ـ مضاء تیزی، دھار، کاٹ، شدت، سختی، سرگرمی، ذہانت، نفوذ، رسائی، داخل ہونا، تیز فہمی، فراست، زیرکی، تیز ذکاوت، فہم و فراست، طاقت، قوت، زور ـ مضاءُ العزیمۃ مقصد کی قوت، عزم، ارادہ، عزم مصمم، جوش و ولولہ ـ أمْضَی زیادہ تیز، زیادہ کاٹنے والا، زیادہ موثر ـ تمضیۃ الوقت تفریح، کھیل ـ صاحبُ الإمضاء دستخط نگار، زیر دستخطی ـ ماضٍ تیز، تیز دھار والا، نوک دار، قاطع، زکی تیز فہم، چیر کر نکل جانے والا، موثر، توانا، طاقتور، سرگرم، ماضی، گزرا ہوا ـ الماضی زمانہ ماضی، مکمل، فعل ماضی مطلق ـ ماضی العزیمۃ باعزم، ثابت قدم، مصمم ـ الشہر الماضی گزشتہ ماہ ـ مُمْضٍ دستخط کنندہ، معاہدہ پر دستخط کرنے والا، فریق معاہدہ ـ مُمْضَی زیر دستخطی، دستخط نگار۔

مطّ: ا ـ مطّ ـ مطًّا الشیءَ کو پھیلانا...... الدلوَ ڈول کھینچنا...... خدّہ تکبر کرنا ـ کہا جاتا ہے مطّ شدقہُ گفتگو طویل کرنا...... الطائرُ جناحیہ پرندہ کا اپنے پر پھیلانا ـ خطّہ او خطوۃ خط کو لمبا کرنا، ڈگ بھرنا ـ مطّط الرجلَ کو گالی دینا ـ الشیءَ کو زور سے کھینچنا یا بہت پھیلانا ـ تمطّط کھنچنا، پھیلنا، چمٹنا ـ کہا جاتا ہے: ھذا دبسٌ یتمطط لخثورتہ یہ پکایا ہوا شیرہ، گاڑھا ہونے کی وجہ سے پھیلتا یا کھنچتا ہے ـ فی الکلام لمبا کرکے اور سجا کر کلام کرنا ـ المطاط اونٹنی کا گاڑھا اور کھٹا دودھ ـ المطّاط ربڑ (rubber) جو کاؤتشوک (caoutchouc) کے نام سے بھی معروف ہے ـ المُطَیطی و المُطَیطاء و المِطِیطاء مغرورانہ چال، چلنے میں دونوں ہاتھوں کو پھیلانا ـ المَطِیطۃ جمع مطائط گدلا گاڑھا پانی ـ

۲ ـ مَطْمَطَ: بولنے یا لکھنے میں سستی کرنا ـ تمطمط الماءُ پانی کا گاڑھا ہونا ـ

○ مطّ ـ مطًّا ہ کو کھینچ کر پھیلانا، کھینچنا، تاننا، کھینچ کر کسنا، نکالنا، کو کسنا، کس کر لگانا یا باندھنا ـ مطّط ہ کو پھیلانا، کھینچنا، تاننا...... ہ کو گالی دینا، جھاڑ جھپاڑ کرنا ـ تمطّط پھیلنا، کھنچنا، وسیع، چوڑا ہونا، پھول جانا، لمبا ہونا، قابل توسیع ہونا، لمبا کرنے کے قابل ہونا، وسعت پذیر ہونا، بڑھانے یا پھیلانے کے قابل ہونا، سکڑنے پھیلنے والا ہونا، لچکدار ہونا، ربڑ جیسا ہونا ـ مطّاط پھیلانے کے قابل، وسعت پذیر، بڑھانے یا پھیلانے کے قابل، لچکدار، سکڑنے پھیلنے والا، ربڑ جیسا، دیر لگانے والا، ربڑ دار، ربڑ، کاؤتشک ـ تمطُّط کشادگی یا وسعت کی قابلیت، وسعت پذیری، پھیلانے یا بڑھانے کی قابلیت، لچک اصلی حالت پر آجانے والی خصوصیت ـ

مطح: مَطَحَ ـ مَطْحًا بیدہ کو ہاتھ سے پیٹنا ـ تمطّحَ و اِمتطحَ الوادی وادی کا پانی زیادہ اور بلند ہونا ـ

مطخ: مَطَخَ ـ مَطْخًا العسلَ شہد چاٹنا ـ الرجلَ بیدہ کو ہاتھ سے پیٹنا ـ عرضہُ کی عزت خراب کرنا ـ الماطخ (فا) سست رفتار گھوڑا ـ المَطّاخ احمق، متکبر، بدزبان، جھوٹا، جھوٹے کو کہتے ہیں مَطْخ مَطْخ یا مِطْخ مِطْخ یعنی تیری بات جھوٹ ہے ـ

مطر: ا ـ مَطَرَ ـ مَطْرًا و مَطَراتِ السماءُ آسمان کا بارش برسانا...... ت السماءُ القومَ آسمان کا قوم پر بارش برسانا ـ ـ مُطورًا و مَطرًا القِربۃَ مشکیزہ بھرنا ـ الفرسُ گھوڑے کا تیز دوڑنا ـ ت الطیرُ پرندہ کا تیزی سے اترنا ـ امطرَتِ السماءُ آسمان کا بارش برسانا ـ السماءُ القومَ آسمان کا قوم پر بارش برسانا ـ الرجلُ کی پیشانی پر پسینہ آنا ـ (کہا جاتا ہے: کلّمتُ فلانًا فأمطر و استمطر میں نے فلاں سے بات کی تو اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور اس کی پیشانی پسینہ سے عرق آلود ہوگئی) بارش میں ہونا ـ المکانَ جگہ کو بارش برسا ہوا پانا ـ تمطّر بارش کے سامنے ہونا، بارش میں قابو آجانا، بارش مانگنا ـ الطیرُ پرندہ کا تیزی سے اترنا ـ بہ فرسُہُ گھوڑے کا سواری لے کر تیز دوڑ جانا ـ ت الخیلُ گھوڑوں کا ایک دوسرے پر سبقت [illegible] آنا ـ استمطر اللّٰہَ اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنا ـ المکانُ او الزرعُ جگہ یا کھیتی کا بارش کا محتاج و ضرورت مند ہونا ـ الرجلُ بارش سے چھپنا ـ ثوبۃً برساتی پہننا ـ فلانًا و من فلان سے بخشش کی التجاء کرنا ـ للسیاط کوڑے کھانا ـ کہا جاتا ہے لا تستمطر الخیلَ گھوڑوں کے سامنے نہ ہو ـ الماطر بارش والا ـ المَطِر بارش والا یوم مَطِر بارش والا دن ـ المَطَر جمع أمطار بارش ـ المُطْرۃ بوچھاڑ ـ المَطْرۃ مشک ـ حوض کا وسط ـ امرأۃ مَطِرۃ غسل و صفائی ستھرائی کا التزام کرنے والی عورت ـ المَطار و المَطارۃ من الآبار چوڑے منہ والا کنواں ـ المَطّار من الخیل تیز دوڑنے والا گھوڑا ـ المَطِیر بارش والا، جس پر بارش ہوئی ہو ـ سحابٌ مِمطارٌ بہت برسنے والا بادل ـ المِمطر و المِمطرۃ برساتی، عوام اسے مشمّع کہتے ہیں ـ المُتماطِر ٹھہر ٹھہر کر برسنے والا بادل ـ المُتمطِّر بارش کے بعد ہوا خوری کرنے والا ـ کہا جاتا ہے خرج مُتمطِّرًا وہ بارش کے بعد ہوا خوری کرتا ہوا نکلا، تیز دوڑنے والا گھوڑا، تیز دوڑنے والے گھوڑے کا سوار ـ المُستمطِر (فا) بارش کا حاجتمند ـ المُستمطَر (مفع) بارش کے لئے کھلا میدان ـ

۲ ـ مَطَرَ ـ مُطورًا فی الارض زمین میں جانا ـ کہا جاتا ہے ذھب ولا ادری مَن مَطَر بہ وہ چلا گیا مجھے معلوم نہیں اسے کون لے گیا ـ العبدُ غلام کا بھاگ جانا ـ تمطّر الرجلُ فی الارض زمین میں جانا ـ

۳ ـ مَطَرَ ـ مُطورًا الشیءُ بلند ہونا ـ

۴ ـ اِستمطر الرجلُ چپ ہونا ـ

۵ ـ المُطْر باجرہ کی بالی، عادت ـ المُطْرۃ و المِطْرۃ و المَطْرۃ عادت ـ

۶ ـ المَطْران و المِطْران جمع مَطارِنۃ و مَطارِین لاٹ پادری، اسقف اعظم ـ

○ مَطَرَ ـ مطرا بارش ہونا ـ مطرت السماءُ بارش ہوئی ـ ہ آسمان کا کسی پر بارش کی بوچھاڑ کرنا ـ ہ ب پر کی بوچھاڑ کرنا، پر کا زوروں سے ہونا یا پڑنا، پر کچھ انڈیلنا، دھار باندھ کر ڈالنا، پر کچھ برسانا، پر کا تانتا بندھ جانا ـ ہ بخیر کے ساتھ اچھائی کرنا، پر مہربانی کرنا، احسان کرنا ـ (گھوڑے کا) تیز دوڑنا، تیز جانا ـ أمطَرَ (ت السماءُ) بارش ہونا ـ ہ علی سے پر بارش کرواتا ـ ہ ب پر کی بوچھاڑ کرنا ـ علی سے ـ ہ ب / علی ہ پر کی بوچھاڑ کرنا ـ ہ پر کا انبار

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لگانا۔ أمْطَرَ عليه وابلاً من یا أمْطَرَه بو ابلٍ من: اس نے اس پر (پتھروں) کی بوچھاڑ کی، اس نے اس پر (گھونسوں/مکوں) کی بارش کی، اس نے اس پر (گالیوں/دھمکیوں) کی بوچھاڑ کی۔ إسْتَمْطَرَ: بارش مانگنا۔ ـــــہ/من سے احسان کرنے کی درخواست کی۔ ـــہ کی آرزو کرنا، کی تمنا کرنا، کی تمنا ظاہر کرنا، کی خواہش کرنا۔ ... علی ہ: پر کی دعا مانگنا۔ مَطر جمع أمْطار: بارش۔ محطة لرصد الامطار بارش پیمائی کا مرکز۔

(Pluviometerical station)

مَطره مَطرَة جمع مطرات بڑے زور کی بارش موسلا دار بارش، بارش کی بوچھاڑ۔ مَطِر و مَطِير برسات کا، بہت بارش والا۔ ممْطَر و مِمْطَرَة جمع مَمَاطِر برساتی (rain coat)۔ مَاطِر بمعنی مَطِر و مَطِير۔ مُمْطِر بمعنی مَاطِر مواسم۔ مُمْطِرَة بارش کے موسم یا عرصے۔ مَطْرَنَ ہ کو اسقف اعظم کے عہدے پر ترقی دینا، کو اسقف اعظم کی خدمات بجالانے کے لئے وقف کرنا۔ تَمَطْرَنَ: اسقف اعظم کی حیثیت سے تعینات ہونا۔ مَطْرَنة اسقف اعظم کا عہدہ۔ مطْرَنِية و مَطْرانية جمع مطرنیات و مطرانیات۔ اسقف اعظم کا حلقہ یا علاقہ۔

مطع: مَطِعَ ـمَطْعًا و مُطبوعًا فی الارض زمین میں جاکر گم ہوجانا۔ ـــالشیءَ: کو اگلے دانتوں سے کھانا۔ المَاطِع (فا): خالص۔ کہا جاتا ہے: بیاض ماطع ناطِع: خالص سفیدی۔

مطق: تمَطَّقَ الطعامَ: کھانا چکھنا۔ ـــالرجُلُ: چٹخارہ لینا۔ ـــت القوسُ: کمان کا پھٹنا۔ المَطْقَة: مٹھاس، حلاوت۔ کہا جاتا ہے: تَمْرُهُمْ لَهُ مَطْقَةٌ ان کی کھجوروں میں مٹھاس ہے۔

مطل: ۱۔ مَطَلَ ـمَطْلاً ہ حَقَّهُ و بحقِّهِ: کو اس کا حق دینے میں بار بار ٹال مٹول کرنا۔ ـــالحبلَ: رسی تاننا۔ ـــالحديدَ: لوہے کو لمبا کرنے کے لئے کوٹنا، لوہے کو پگھلا کر چوڑا کرنا۔ مَاطَلَ مِطالاً و مُمَاطلةً ہ بحقه کو کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ ـــالدَّيْنَ: قرض کی ادائیگی کو ملتوی کرنا۔ إمْتَطَلَ ہ حَقَّهُ: کو ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ ـــالنباتُ: پودے کا بڑھ کر لمبا ہونا اور گنجان ہونا۔ ـــإمْطَلَّ الشيءُ: چیز کا دراز ہونا۔ المُطْلَة و المَطْلَة: حوض یا جوہڑ کی تہہ میں بچا پانی۔ المِطالَة: قلعی گر کا پیشہ۔ المُطّال: لوہے کو پگھلانے والا۔ المَطّال و المَطول: بہت ٹال مٹول کرنے والا۔ المَطِيلية: تپا کر کوٹا اور چوڑا کیا ہوا لوہا۔ المِمْطَل: لوہار کا آہرن۔

۲۔ المُطْلَة: مشک سے گرنیوا تھوڑا سا پانی۔ المطل: چور۔

○ مَطَلَ ـمَطْلاً ہ: کو لمبا کرنا، پھیلانا، چوڑا کرنا۔ ہ: رسی تاننا ـــہ: (لوہے) کو ہتھوڑے سے کوٹنا، تپانا، کوٹ کر کوئی شکل دینا ـہ ب: کو عذر پیش کر کے ٹال جانا...... ہ کو ملتوی کرنا۔ مَاطَلَ دیر کرنا، دفع الوقت کرنا، وقت لینا۔...... ہ ب کو کوئی عذر کر کے ٹال جانا۔ مَطُول۔ ملتوی کرنے والا، تاخیر کرنے والا، ٹالنے والا، معرض تعویق میں ڈالنے والا، دیر سے (کام) کرنے والا، سست، دیر کرنے والا۔ مَطِيلة جمع مَطائِل: کوٹا ہوا لوہا۔ مُمَاطلة التواء، لیت و لعل، ٹال مٹول، تعویق، تاخیر۔

مطو: مَطَا يَمْطُو مَطْوًا چلنے میں جلدی کرنا۔ بالقوم. کو دیر تک چلانا۔ مَطِيَ يَمْطَى مَطًا: پھیلنا، لمبا ہونا۔ أمْطَى الدابةَ: جانور پر سوار ہونا، جانور کو سواری بنانا۔ ـــہُ الدابةَ کو جانور پر سوار کرنا۔ تَمَطَّى: پھیلنا، لمبا ہونا، طویل سیر کرنا۔ ـــالرجُلُ: چلنے میں تکبر سے بازو پھیلانا۔ إمْتَطَى الدابةَ: جانور پر سوار ہونا۔ المَطَا (مص تثنیه مَطَوَانِ جمع أمْطاء: پیٹھ۔ المَطْو جمع مِطَاء و أمْطاء و مَطِيّ: وہ شاخ جس کو چیر کر گٹھا باندھا جائے۔ المِطْو جمع مِطَاء و أمْطاء و مَطِيّ: وہ شاخ جس کو چیر کر گٹھا باندھا جائے۔...... جمع مِطاء کھجوروں سے لدا ہوا کھجور کا درخت، باجرہ کا خوشہ، ساتھی، نظیر۔ المَطْوَة: مَطَا کا اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے: مضت مَطْوَة من الليل رات کی ایک گھڑی گزر گئی۔ المَطِيَّة جمع مَطَايَا و مَطِيّ جانور جس پر سواری کی جائے، اس میں مذکر و مؤنث برابر ہیں۔ چنانچہ بعیر (اونٹ) اور ناقہ (اونٹنی) مَطِية (سواری کا جانور) ہیں۔ المُطَوَاء (غُلَوَاء کی طرح): انگڑائی وسعت لمبائی۔ الأمْطِيّ: سیدھے قد والا، ایک قسم کا گوند جو کھایا جاتا ہے۔

○ مَطَا ـمَطْوًا جلدی جلدی قدم اٹھانا، جلدی کرنا، تیز چلنا۔ أمْطَى ہ: (جانور) پر سوار ہونا، چڑھنا۔ تَمَطَّى: پاؤں پسار کر لیٹنا، دراز ہونا، اینٹھنا، سستی سے پڑے رہنا، بیٹھنا یا کھڑے ہونا۔ ـب: کو پھیلانا جیسے اپنا جسم یا بازو، ـــتکبر سے چلنا، اترا کے چلنا، اکڑ کر چلنا، یا اینٹھ کر چلنا۔ إمْتَطَى ہ: (جانور) پر چڑھنا، (گاڑی) پر چڑھنا، میں داخل ہونا، پر سوار ہونا، جانور یا گاڑی پر سوار ہونا۔ مَطْوَة: گھڑی، وقت، لمحہ۔ مَطِيَّة جمع مَطَايَا و مَطِيّ: سواری کا جانور، مصلحت، چارۂ کار، حصول مقصد کا ایک ذریعہ، آلۂ کار۔

مظ: ۱۔ مَظّ ـمَظًّا ہُ: کو ملامت کرنا۔ مَاظَّ مِظاظًا و مُمَاظَّةً ہُ: سے جھگڑنا، کو گالی دینا۔ ـالخَصْمَ: دشمن کا نزدیک رہ کر تعاقب کرنا۔ أمَظَّ ہُ: کو گالی دینا۔ تَمَاظَّ القومُ: آپس میں جھگڑا کرنا، باہم گالی گلوچ ہونا۔ المَظَاظَة: سختی، بدمزاجی۔

۲۔ المَظّ (ن): جنگلی انار، ایک قسم کی گوند کا سرخ عرق، رس، شیرہ یا نچوڑ۔

مظع: مَظَعَ ـمَظْعًا و مَظَّعَ الوتَرَ: تانت کو خشک اور ہموار کرنا۔ تَمَظَّعَ الماكولَ: کھانے کے قابل چیز کو چٹ کر جانا۔ ـالظِلَّ سایہ ادھر ادھر تلاش کرنا۔ ـفی الرعی: چرانے کی وقت سے پیچھے رہ جانا۔ المُظْعَة: گھاس کا بقیہ۔

مع: ۱۔ مَعَ و مَعْ: ساتھ، وقت پر، کے باوجود جیسے: الله مَعَكم: اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ افْعَلْ هذا مع هذا: اس کے ساتھ یہ کر۔ جئتك مَعَ العصر: میں عصر کے وقت تمہارے پاس آیا۔ جئتُ مِن مع القوم: میں ان کے پاس سے آیا۔ مندرجہ بالا صورتوں میں "مع" مضاف استعمال ہوا ہے۔ غیر مضاف ہونے کی صورت میں حال کے طور پر مُنَوَّن (تنوین نصبی) آتا ہے اور جماعت اور تثنیہ کے لئے ایک لفظ سے آتا ہے۔ جیسے: جَاءَ زيدٌ و عَمْرو معًا: زید اور عمرو ایک ساتھ آئے، اکٹھے آئے۔ جِئنَا معًا: ہم اکٹھے آئے۔ نسبت کی صورت میں مَعِيّ آتا ہے۔ اس سے واؤ معیت بھی آتی ہے جیسے: سرتُ والجبلَ: میں پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلا۔

○ مع ذلك: اس کے باوجود۔ مع كونه غنيا: اس کے مالدار ہونے کے باوجود۔

۲۔ مَعْ: بکری وغیرہ کی آواز کی نقل، عام لوگ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ مَعَّى الخروفُ يمعّي: بھیڑ کے بچے نے میں میں کی۔

○ مَعًا: اکٹھے، ساتھ ساتھ، مل کر، ایک مقام پر، ایک ہی جگہ، اسی وقت، ایک ہی وقت، ایک دوسرے کے ساتھ۔ مَعَ أن: اگرچہ، ہرچند، باوجودیکہ۔ و مَعَ أنّ ـــ إلاّ أنَّ: اگرچہ، تاہم، لیکن۔ مع ذلك یا مع هذا: اس کے باوجود، اس کے بعد بھی، بایں ہمہ، اس پر بھی، پھر بھی۔ مع كلّ هذا: اس سب کے باوجود، بایں ہمہ۔ ليس مع الحكومة: وہ حکومت کے حق میں نہیں، وہ حکومت کا طرفدار نہیں۔ مع الحائط

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دیوار کے ساتھ ساتھ۔ کان معه: یہ اس کے پاس تھا۔ مَامَعَکم؟: تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کیا لائے ہو؟ تمہارے ذہن میں کیا (تدبیر یا منصوبہ) ہے؟۔ اَلَسْتَ معی فی ان: کیا تمہارا بھی یہ خیال نہیں کہ۔ کیا تم میری اس رائے میں شریک نہیں کہ۔ اِستعملَ وسائل القَسْوَۃِ مع: اس نے اس کے خلاف سخت اقدامات استعمال کئے۔ مَعِیَّۃ: ساتھ، معیت، رفاقت، صحبت، حفاظت، خدم و چشم، نوکر چاکر، حاشیہ نشیں، مصاحب۔ معیة فلان یا فی معیةِ فلان: کی معیت یا رفاقت میں۔ معیةِ هذا: یہ اس میں ملفوف ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے۔

مع: ۱۔مَعَّ ۔مَعًّا الشحمُ: چربی کا پگھلنا۔

۲۔مَعْمَعَ: جلدی میں کوئی کام کرنا۔۔۔ القومُ: سخت قتال کرنا، سخت گرمی میں چلنا۔۔۔ الشیءُ المحترقُ: جلتی چیز کا آواز دینا۔۔۔ ت السماءُ المطرَ علی الارض: آسمان کا یکلخت برس کر زمین کو چھیل ڈالنا۔ المَعْمَعَۃ (مص) جمع مَعَامِع: نرکل کے جلنے کی آواز، جنگ میں لڑنے والوں کا شور، گرمی کی شدت۔ المَعامِع: جنگیں، فتنے۔ المَعْمَعَانُ: سخت گرمی یا سردی۔ کہا جاتا ہے: جَاءَنی فی معمعان الصیف. وہ میرے پاس موسم گرما کی سخت گرمی کے وقت آیا۔ فی مَعْمَعانِ الشتاء: سخت سردی میں۔۔۔ والمَعْمعانی من الایام: سخت گرم دن۔

۳۔مَعْمَعَ الرجُلُ: بات چیت میں لفظ ''مع'' زیادہ استعمال کرنا۔ المَعْمَعِی: جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، اور ہر ایک سے کہتا ہو: انا معك (میں تیرے ساتھ ہوں) یعنی میری بھی وہی رائے ہے جو تمہاری رائے ہے۔

۴۔المَعْمَع: ذہین اور تیز خاطر عورت۔ کہا جاتا ہے: هو ذُومَعْمَعٍ: وہ امور کو برداشت کرنے والا، ان پر کامل توجہ کرنے والا ہے۔

مَعْمَعَۃ جمع مَعَامِع: الجھن، گڑبڑ، گھبراہٹ، گڈمڈ، بے ترتیبی، ابتری، ہنگامہ، کہرام، شور و غوغا، ہلچل، افراتفری۔ مَعامِع: جنگیں، لڑائیاں، معرکے۔ مَعْمَعَان: طوفان کا زور اور گرج، (جنگ کا) ہنگامہ، (گھمسان کا) رن، (گرمی اور سردی) کی شدت اور انتہاء۔ مَعْمَعانُ الصیف: سخت گرم موسم۔ معمعان الشتاء: سخت سردی کا موسم۔ مَعْمَعِی: جی حضوریا (yesman)۔

معت: مَعَتَ ۔مَعْتًا الشیءَ: کو ملنا۔

معج: مَعَجَ ۔مَعْجًا الفرسُ: گھوڑے کا نرمی اور تیزی سے چلنا۔ صفت مَعُوج۔۔۔ البحرُ: سمندر کا موج زن ہونا، جوش مارنا۔۔۔ السیلُ: سیلاب کا تیز بہنا۔۔۔ بالقلم فی الدواۃ: قلم کو دوات میں ہلانا تاکہ اس پر روشنی اچھی طرح لگ جائے۔۔۔ الفصیلُ ضرعَ امِّه: اونٹنی کے بچے کا دودھ اتارنے کے لئے منہ مارنا۔ کہا جاتا ہے: الریحُ تَمْعَجُ فی النبات: ہوا پودوں کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کر رہی ہے۔ تَمَعَّجَ السیلُ او الحیَّۃُ: سیلاب یا سانپ کا پیچ و تاب کھاتے ہوئے گزرنا۔ المَعْج (مص). اضطراب، قتال، ہوا کا نرم چلنا۔ المَعْجَۃ: اسم مرۃ۔ جوانی کا آغاز۔ کہا جاتا ہے: فعل ذلك فی معجة شبابه: اس نے یہ کام اپنی جوانی کے آغاز میں کیا تھا۔ المَعَّاج: اسم مبالغہ۔ حمارٌ معَّاجٌ: دوڑنے میں ادھر ادھر ہونے والا گدھا۔ ریحٌ مَعُوجٌ: تیز چلنے والی ہوا۔ فرسٌ مِمْعَجٌ: نرمی اور تیزی سے چلنے والا گھوڑا۔

تَمَعَّجَ: (دریا کا) چکر کھاتے ہوئے بہنا۔ چکر کھانا، پیچ و خم کے ساتھ چلنا۔

معد: ۱۔مَعَدَ ۔مَعْداً الشیءَ: کو چرانا، خورد برد کرنا، اچک لیجانا، تیزی سے کھینچنا۔۔۔ الرمحَ: نیزہ کو اس کی جگہ سے کھینچنا۔۔۔ فی الارض: زمین میں دور کا سفر کرنا۔۔۔ لحمَهُ: گوشت کو آگے کے دانتوں سے کھانا۔۔۔ السیفَ: تلوار سونتنا۔۔۔ مَعْداً و مُعُودًا بالشیءِ: کو لیجانا۔۔۔ الدلوَ وبها: ڈول کو کنویں سے کھینچ کر نکالنا۔ اِمْتَعَدَ الشیءَ: کو چرانا، خورد برد کرنا۔ المَعْد: تیز چلنے والا اونٹ۔ المَعْدَۃ: اسم مرہ۔ مَعْد کا مونث۔

۲۔مَعَدَ ۔مَعْداً الرجُلَ: کے معدہ پر مارنا، کا پیٹ زخمی کرنا۔۔۔ الشیءُ: خراب ہونا۔ مُعِدَ: کے معدے کا تکلیف دینا۔ صفت مفعولی مَمْعُود: یعنی جسے معدہ تکلیف میں مبتلا کئے ہوئے ہو۔ المَعْد (مص): موٹا۔ المَعِدَۃ والمِعْدَۃ جمع مَعِد و مِعَد (ع ا): معدہ۔ المُعَاد (طب): معدے کی بیماری۔ المَعْدّ: پیٹ، انسان وغیرہ کا پہلو۔ یہ دو ہوتے ہیں۔ هما المَعَدَّانِ۔

۳۔المَعْد: نرم سبزی، تازہ پھل۔ کہا جاتا ہے: ماله ثَعْدٌ ولا مَعْدٌ: اس کے پاس نہ تھوڑا ہے نہ بہت۔ المُتَمَعِّدَۃ من الرطب: تازہ رس دار کھجوریں۔

۴۔تَمَعْدَدَ الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونا، موٹا تازہ ہونا اور بچپن کی تری جاتی رہنا۔۔۔ المریضُ: بیمار کا تندرست ہونا۔۔۔ المهزولُ: کمزور کا موٹا ہونے لگنا۔

مُعِدَ: ریاحی تکلیف میں مبتلا ہونا، ضعف معدہ یا اسہال کی تکلیف میں مبتلا ہونا، پیٹ درد کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ مَعِدَۃ و مِعْدَۃ جمع مِعَد: پیٹ۔ مَعِدی: پیٹ کا، ریاحی۔ امراض معدیة: ریاحی بیماریاں۔ حُمَّی معدیة: ریاحی بخار۔ مَمْعُود: ریاحی بیماری میں مبتلا، ضعف معدہ کا مریض۔

معر: مَعِرَ ۔مَعَراً الریشُ او الشَعَرُ: بال یا پر کم ہونا۔۔۔ ت الناصیةُ: پیشانی گنجی ہونا۔۔۔ الظُفرُ: ناخن کا چوٹ وغیرہ سے گر جانا۔ مَعَرَ: غریب ہونا، بے توشہ ہونا۔۔۔ وجهَهُ: چہرے کو غصہ سے بدلنا۔ اَمْعَرَ الریشُ او الشَعَرُ: بال یا پر کم ہونا۔۔۔ الرجلُ: غریب ہونا۔۔۔ ت الارضُ: زمین کا کم نباتات والی ہونا۔۔۔ الرجُلَ: کا مال چھین کر اسے کنگال کر دینا۔ ...... القومُ: لوگوں کا قحط زدہ ہونا، بے سبزہ زمین میں آنا۔۔۔ ت المواشی الارضَ: مویشیوں کا سب گھاس چر جانا۔ تَمَعَّرَ راسُهُ: کے سر کے بالوں کا گر جانا۔۔۔ وجهُهُ: کے چہرہ کا رنگ بدل جانا، پیلا پڑ جانا، تازگی جاتی رہنا۔ المَعِر: کم بالوں یا پروں والا، چوٹ وغیرہ سے گرا ہوا ناخن، بخیل اور بے خیر مرد، کم گوشت والا۔ ارضٌ مَعِرَۃ: ننگی زمین، بے برگ و گیاہ زمین۔ المَعَارَۃ: بدمزاجی، غضبناکی کی وجہ سے چڑھائی ہوئی تیوری۔ الأَمْعَر مونث مَعْرَاء، جمع مُعْر: کم بالوں والا، کم نباتات والی جگہ، اترے ہوئے بالوں والا موزہ۔ ناصیةٌ مَعْراء: گنجی پیشانی۔ المَمْعُور (مفع): غصہ سے تیوری چڑھانے والا۔

مَعِرَ ۔مَعَراً: بالوں کا گر جانا۔ اَمْعَرَ: غریب ہو جانا، کنگال ہو جانا۔ تَمَعَّرَ: بالوں کا گر جانا۔ مَعَّار: ڈینگ مارنے والا، لاف زن، شیخی خورہ، اکڑنے والا، شیخی باز۔

معز: مَعَزَ ۔مَعزاً الراعی المعزی عن الضأن: چرواہے کا بکریوں کو بھیڑوں سے الگ کرنا۔ مَعِزَ ۔مَعَزًا الشیءُ: سخت ہونا۔ صفت مَعِزٌ و ماعِزٌ۔۔۔ الرجُلُ: کام میں کوشش کرنا۔ و اَمْعَزَ الرجُلُ: بہت بکریوں والا ہونا۔ تَمَعَّزَ وجهُهُ: چہرہ کا تیوری والا ہونا۔۔۔ البعیرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا۔ اِسْتَمْعَزَ: کام میں کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے: ما اَمْعَزَهُ من رجُلٍ: وہ کتنا سخت اور بے لوچ ہے۔ ما اَمْعَزَ رأیَهُ: وہ کس قدر مضبوط رائے والا ہے۔ الماعِز (فا) مَعْز کا واحد جیسے صاحب و صَحب۔ مذکر و مونث ہے۔ بکرا، بکری، کبھی بکری کو ماعِزَۃ بھی کہتے ہیں۔ جمع مَوَاعِز: بکری کی کھالی، طاقتور شخص۔۔۔ و المَعِز

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

والمُسْتَمْعِز: چست کوشش کرنے والا۔ المَعْز: بکری۔ اسم جنس ہے۔ واحد ماعِز اور جمع (ح): اَمْعُز و مَعِیز۔ المَعَز: زمین کی سختی ہے۔ (ح): بکری (اسم جنس)۔ المَعَاز و المِعْزَى والمَعِیز: بکری (اسم جنس)۔ ماعز کی مادہ، بکری۔ المِعْزَاة: بخیل، سائل کو روکنے والا۔ المِعْزِی: بکریوں والا، بکریوں کا چرواہا۔ المَعَّاز: گڈریا۔ الأَمْعَز م: سخت پتھریلی جگہ۔ مَعْزاء جمع مُعْز و مَعْزَاوات و اَمَاعِز: بکری۔ الأُمْعُور جمع اَمَاعِر و اَمَاعِیر: تیس چالیس کے درمیان ہرنوں کا غول۔ رَجُلٌ مُمَعَّز: سخت کھال والا۔

مَعْز و مَعَز: بکریاں۔ اسم جنس واحد مَعْزَة جمع اَمْعُز و مَعِیز: بکری، بکرا۔ مَعَّاز: ماعِز جمع مَوَاعِز: بکریاں چرانے والا، چرواہا، گڈریا۔

معس: ۱- مَعَسَ ـ مَعْساً الشیءَ: کو زور سے ملنا۔ ـ الرجلَ: کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا، کو نیزہ مارنا۔ عوام کہتے ہیں: مَعَسَهُ: اس نے اسے خوب کوٹا (سریانی لفظ)۔ المَعْس: حرکت۔ المَعَّاس و المُتَمَعِّس: لڑائی میں آگے بڑھنے والا۔

۲- المَعْس: دودھ۔

معص: مَعِصَ ـ مَعَصاً الرجلُ: زیادہ چلنے سے پاؤں میں موچ آنا یا پٹھے میں درد ہونا۔ صفت: مَعِص و مَعِیص۔ تَمَعَّصَ بطنُهُ: کو پیٹ کا درد کرنا۔ ـ الرجلُ: شرمندہ ہونا۔

معض: مَعِضَ ـ مَعَضاً و اِمْتَعَضَ عن الامر: پر غضبناک ہونا، کو گراں گزرنا۔ صفت: مَعِض و ماعِض۔ مَعَّضَهُ: کو غضبناک کرنا، کو تکلیف دینا، کو درد میں مبتلا کرنا۔ اَمْعَضَهُ: کو غضبناک کرنا، کو دکھ دینا۔ ـ الشیءَ: کو جلانا۔

معط: ۱- مَعَطَ ـ مَعْطاً الشیءَ: کو کھینچنا، پھیلانا۔ ـ بحقِ فلان: کے حق کو ٹال جانا۔ اِمْتَعَطَ و اِمَّعَطَ النهارُ: دن کا لمبا ہونا۔

۲- مَعَطَ ـ مَعْطاً الریشَ: پر نوچنا۔ ـ السیفَ: تلوار سونتنا۔ مَعِطَ ـ مَعَطاً الذئبُ: بھیڑیے کا گرے ہوئے بالوں والا ہونا۔ صفت: مَعِط و اَمْعَط۔ تَمَعَّطَ الذئبُ: بھیڑیے کا گرے ہوئے بالوں والا ہونا۔ ـ الشَعَرُ: بیماری سے بالوں کا گر جانا۔ اِمْتَعَطَ السیفَ: تلوار سونتنا۔ ـ الشَعَرُ: بیماری سے بالوں کا گر جانا۔ ـ رُمْحَهُ: نیزہ نکالنا۔ اِمَّعَطَ و اِنْمَعَطَ الشَعَرُ: بیماری سے بالوں کا گر جانا۔ المَعِط: جس کے جسم پر بال نہ ہوں۔ الاَمْعَطُ مؤنث مَعْطاء جمع مُعْط: گنجا، جس کے بال گر گئے ہوں۔ لِصٌّ اَمْعَط: بھیڑیے جیسا چور۔ رَملٌ اَمْعَط: ریت جس پر کوئی پودا نہ ہو۔ ارضٌ مَعْطاء: بنجر زمین۔

معق: ۱- مَعَقَ ـ مَعْقاً: کوڑ کڑ کا کر پینا۔ ـ السیلُ الارضَ: سیلاب کا زمین کو بہا لیجانا۔ مَعُقَ ـ مَعَاقَةً النهرُ: دریا کا گہرا ہونا۔ صفت: مَعِیق مونث مَعِیقَة۔ اَمْعَقَ البئرَ: کنویں کو گہرا کرنا۔ تَمَعَّقَ: گہرا ہونا۔ المَعْق و المَعَق و المُعُق جمع اَمْعَاق و اَمَاعِق و اَمَاعِیق: گہرائی۔

۲- مَعِقَ مَعَقاً الرجلُ: خراب معدے والا ہونا۔ تَمَعَّقَ الرجلُ علینا: اس نے ہمارے ساتھ بد خلقی کی۔ المَعْق: بد خلقی۔

۳- المَعْق: بنجر زمین۔

معك: ۱- مَعَكَ ـ مَعْكاً الشیءَ: کو ملنا۔ ـ الرجلَ: کو ذلیل کرنا، کی بے عزتی کرنا۔ ـ فلاناً فی الخصومة: پر دشمنی میں غالب آنا۔ ـ هُ دَینَهُ و بدَینِهِ: کے قرض کو ٹالنا۔ مَعَّكَهُ فتَمَعَّكَ: کو زمین پر لوٹ پوٹ کرنا اور اس کے نتیجہ میں زمین پر لوٹ پوٹ ہونا۔ مَاعَكَ مُمَاعَكَةً هُ بدَینِهِ: کے قرض کو ٹالنا۔ المَعِك: سخت جھگڑالو۔ ـ والمِمْعَك: قرض ٹالنے والا۔

۲- مَعُكَ ـ مَعَاكَةً: بے وقوف ہونا۔ المَعِك: احمق، بے وقوف۔

۳- المَعْكَرُونة (ط): ایک قسم کا مشہور کھانا (اطالوی زبان میں)۔

معل: ۱- مَعَلَ ـ مَعْلاً الشیءَ: کو چرانا، اچک لینا۔ ـ امرَهُ: کام کو اپنے ساتھیوں سے پہلے جلد سر انجام دینا۔ ـ الرجلُ: تیز چلنا۔ ـ هُ عن الشیءِ: کو سے پھرتی کیساتھ ہٹا دینا۔ اَمْعَلَهُ عن الشیءِ: کو سے پھرتی کیساتھ ہٹا دینا۔ اِمْتَعَلَ الرجلُ: پے در پے نیزے مارنا۔ المَعِل من الناس: پھرتیلا، جلد باز۔ المَعْل (مص): کہا جاتا ہے: مالك منه مَعْلٌ: تمہارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

۲- مَعَلَ ـ مَعْلاً الخشبةَ: لکڑی چیرنا۔

معن: ۱- مَعَنَ ـ مَعْناً و مَعُنَ ـ مُعُوناً الماءُ: پانی کا نرم رفتار سے چلنا۔ صفت مَعِین۔ ـ الفرسُ: دوڑنے میں لمبے ڈگ بھرنا، دور تک نکل جانا۔ ـ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو سیراب کرنا۔ مَعِنَ ـ مَعَناً المکانُ او النبتُ: جگہ یا پودوں کا پانی سے سیراب ہونا۔ اَمْعَنَ الوادی: وادی کا بہت جاری پانی والا ہونا۔ اَمْعَنَ مالُهُ: مال کا زیادہ ہونا، کم ہونا (ضد)۔ اَمْعَنَ الماءُ: پانی کا نرم رفتار سے بہنا۔ ـ فلانٌ الماءَ: کا پانی بہانا۔ ـ تِ الارضُ: زمین کا سیراب ہونا۔ ـ فی الطلب: ڈھونڈ میں مبالغہ کرنا۔ ـ فی الامر: معاملہ کی تہہ تک پہنچ جانا۔ ـ الضبُّ فی جُحْرِهِ: گوہ کا اپنے بل میں دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑ میں دور تک نکل جانا۔ ـ النظرَ فی الامر: معاملہ کو بہت گہرائی تک سوچنا۔ تَمَعَّنَ: ذلیل ہونا، حقیر ہونا۔ ـ فی الامر: معاملہ کا احتیاط سے جائزہ لینا۔ المَعْن (مص): مفید چیز، ذلت، بہت، کم (ضد)، آسان، بہت مالدار، تھوڑے مال والا (ضد)، کھلا اور ظاہر پانی۔ المَعْنَة: مَعَنَ کا اسم مرة۔ کہا جاتا ہے: ماله سَعْنَةٌ و لا مَعْنَةٌ: اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ المَعْنَی: زیادہ مال والا، تھوڑے مال والا (ضد)۔ المَاعُون: بارش، پانی، گھر میں برتنے کی چیزیں مثلاً کلہاڑی، ہانڈی وغیرہ، بھلائی، نیکی، فرمانبرداری، زکوۃ۔ المَعِین جمع مُعُنات و مُعُن: بہتا پانی۔ کہا جاتا ہے: ماءٌ مَعِین: بہتا یا جاری پانی۔ سقاءٌ مَعِین: مشک جس کا پانی بہتا ہو۔ المُعُنَات والمُعْنان: نالے، ندیاں و میدان، وادی میں پانی کی ندیاں۔ کلأٌ مَمْعُون: وہ گھاس جس میں پانی جاری ہو۔ روضٌ مَمْعُون: بہتے پانی سے سیراب کیا جانے والا باغ۔

۲- مَعَنَ ـ مَعْناً النعمةَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ ـ بالحق: حق سے انکار کرنا، حق کا اقرار کرنا (ضد)۔ اَمْعَنَ بالحق: حق کا انکار کرنے کے بعد اقرار کرنا، حق کا انکار کرنا۔

۳- تَمَعْنَى یَتَمَعْنَى: معنی سمجھانا یا بیان کرنا۔

۴- المَعْن: طویل، لمبا، چھوٹا (ضد)، کھال، سطح، سرخ چمڑا۔ المَعَان: منزل۔ المَاعُون: کاغذ کا رم یا دستہ۔

اَمْعَنَ فی: کے لئے تمام کوششوں کو وقف کرنا، کام توجہ سے کرنا، کا آرزومند ہونا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، میں منہمک ہونا، کے لئے سرگرم ہونا، کا اچھی طرح جائزہ لینا، کا احتیاط سے مطالعہ کرنا، کی جانچ پڑتال، میں افراط و تفریط سے کام لینا، میں مبالغہ سے کام لینا، کو بہت دور تک لیجانا۔ اَمْعَنَ النظرَ فی: پر نظریں گاڑنا، کو توجہ غور یا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کا بغور جائزہ لینا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ تَمَعَّنَ فی: میں منہمک ہونا، مستغرق ہونا، مصروف ہونا، کو توجہ سے دیکھنا، کا احتیاط سے جائزہ لینا، کو بغور دیکھنا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ مَاعُون جمع مَوَاعِین: سامان عام استعمال کا برتن، آلہ، برتن، کوئی چیز رکھنے کے لئے ڈبہ،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بوتل وغیرہ۔ (اسم جنس) گھر کی چیزیں برتن، ساز و سامان، کاغذ کا رم (ream)۔ مَاعُونَۃ جمع مَاعُونَات و مَوَاعِین: سامان اتارنے کی کشتی، بجرا۔ بِتَمَعُّن: احتیاط سے، ہوش مندی سے۔

معو: ۱۔ مَعَا یَمْعُو مُعَاءً السنورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

۲۔ اَمْعَی النخلُ: پکی ہوئی کھجوروں والا ہونا (کھجور کے درخت کا)۔ ــ البسرُ: کھجور کا خوش مزا ہونا۔ المَعو: پکی ہوئی کھجور جو کچھ کچھ خشک ہونے لگے۔

۳۔ تَمَعَّی السقاءُ: مشک کا تن جانا، شر کا لوگوں میں پھیلنا۔

۴۔ ــــ: اونٹ کے نیچے کے ہونٹ میں پھٹن و ترخن۔

المَعَی و المِعی جمع اَمعاء و المعاء جمع اَمْعِیَۃ ج: آنت مذکر، کبھی مونث بھی آجاتا ہے۔

الأمعاءُ الدقیقۃ: چھوٹی آنتیں۔ المعی الغلیظ بڑی آنت۔ مِعَوِی: آنتوں کے متعلق، آنتوں کا، موتی جھیرا۔ الحُمّی المِعَوِیَۃ: ٹائیفائیڈ بخار۔

مع: مَعْمَعَ اللحمَ: گوشت کو اچھی طرح نہ چبانا ـــ الکلامَ: بات صاف اور واضح نہ کہنا ـــ الشیءَ: کو خلط ملط کرنا ـــ فی عمدہ: کمزور ردی کام کرنا ـــ الامرُ: معاملہ کا گڈمڈ ہونا ـــ الکلبُ فی الاناء: کتے کا برتن میں منہ ڈال کر چپڑ چپڑ پی جانا۔

مغث: ۱۔ مَغَثَ ـ مَغْثًا الدواءَ فی الماء: دوا کو پانی میں بھگونا ...... الرجلَ: کو ہلکی مار مارنا، پچھاڑنا۔ کہا جاتا ہے: مَغَثَتْهُمُ الحُمّی: انہیں بخار نے آ پکڑا۔ ـــ ہُ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا، غرق کرنا ـــ الشیءَ: کو خلط ملط کرنا ـــ عِرضَ فلان: کی عزت خراب کرنا۔ مُغِثَ الرجُلُ: پر بخار چڑھنا، بخار میں مبتلا ہونا۔ مَاغَثَ مِغَاثًا و مُمَاغَثَۃً ہُ: سے جھگڑا کرنا۔ المَغْثُ جمع مِغَاث: انگلیوں سے مل کر نرم کرنا، لڑائی۔ المَغِث: کشتی کرنے والا، پہلوان۔ المَغِیث: بارش کا پچھاڑا ہوا پودا، شریر آدمی۔

۲۔ المُغَاث (ن): چوڑے پتوں اور سفید پھول والا ایک درخت۔

معد: مَعَدَ ـ مَعْدًا الشیءَ: کو چوسنا ـــ الفصیلُ اُمَّہُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا ...... الرجُلُ فی عیشہ: آسودہ زندگی بسر کرنا ـــ العیشُ البدنَ: خوراک کا جسم کو موٹا تازہ کرنا ـــ فلانٌ: بھری جوانی والا ہونا ـــ النباتُ: نباتات کا دراز ہونا ـــ شَعْرَہُ: کے بال اکھیڑنا ـــ و مَعِدَ ـ مَعَدًا البدنُ: بدن کا گوشت سے بھرنا اور موٹا ہونا۔ اَمْعَدَ: دیر تک پینا ـــ الصبیَ: کو دودھ پلانا۔ المَعْد: ببول یا بیری کا گوند۔ (ن): ایک زہریلا پودا، بینگن۔ (ن): ککڑی کے مشابہ ایک پھل۔ (ن): ایک قسم کا درخت، بڑا ڈول۔ عَیشٌ مَعْدٌ: خوشحال زندگی۔

مغر: ۱۔ مَغَرَ ـ مَغْرًا فی البلاد: ملک میں جلدی سے جانا ـــ بہ بعیرُہُ: کو لے کر اونٹ کا تیز دوڑنا۔ اَمْغَرَہُ بالسهم: تیر کو کسی کے آر پار کرنا۔

۲۔ مَغَّرَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ مٹی یا گیرو سے رنگنا۔ اَمْغَرَتِ الناقۃُ: بیماری سے اونٹنی کا دودھ سرخ ہو جانا۔ صفت مُمْغِر۔ المَغَر و المُغْرَۃ: ہلکا سرخ رنگ۔ المَغْرَۃ و المَغَرۃ: سرخ مٹی، گیرو ـــ الاَمْغَر: گیرو جیسے رنگ والا، سفید چہرہ میں سرخی کی جھلک والا۔ لبنٌ مَغِیرٌ: دودھ جس میں خون کی آمیزش ہو۔ المَمْغَرَۃ: وہ زمین جس سے گیرو نکلے۔

۳۔ المَغارَۃ: دیکھو غور۔

مَغَر و مُغْرَۃ: سرخی مائل، سرخ گوں، سرخ رنگ کا۔ اَمْغَر: سرخی مائل بھورا۔

مغس: مَغَسَ ـ مَغْسًا الشیءَ بیدہ: کو ہاتھ سے ٹٹولنا ـــ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ مُغِسَ: دیکھو مُغِصَ۔

مغص: ۱۔ مَغِصَ ـ مَغَصًا و مُغِصَ مَغْصًا: آنتوں میں مروڑ ہونا۔ صفت مَمْغُوص۔ اَمْغَصَ ہُ: میں مروڑ پیدا کرنا۔ تمَغَّصَ ہُ بطنُہُ: کے پیٹ میں مروڑ ہونا، درد ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَمَغَّصَ بطنی: میرے پیٹ میں درد ہوا۔ تَمَغَّصَنِی الشیءُ و تَمَغَّصتُ منہ: اس نے مجھے ایذا دی۔ المَغْص (مص): آنتوں میں درد، مروڑ۔

۲۔ المَغَص جمع اَمْغَاص واحد مَغَصَۃ: عمدہ اونٹ۔

مَغْرِبَۃ: مراکشی بنانا۔

مَغَّصَ: مروڑ کا باعث بننا، مروڑ پیدا کرنا۔ مُغِصَ مَغْصًا: کو مروڑ ہونا، درد شکم ہونا، درد شکم میں مبتلا ہونا، کو مروڑ لگنا، قولنج میں مبتلا ہونا۔ مَغْص و مَغَص و مَغِیص: مروڑ، قولنج، درد شکم۔ مَغْص کُلْوِی: گردوں کا قولنج۔ مَمْغُوص: درد شکم، قولنج میں مبتلا، جسے مروڑ لگے ہوں۔

مغط: مَغَطَ ـ مَغْطًا و مَغَّطَ الشیءَ: کو لمبا کرنے کے لئے کھینچنا۔ تَمَغَّطَ الشیءُ: کھنچنا، لمبا ہونا ـــ البعیرُ: اونٹ کا دوڑنا ـــ الفرسُ: گھوڑے کا بہت تیز دوڑنا۔ اِمْتَغَطَ: کھنچنا، لمبا ہونا ـــ السیفَ: تلوار سونتنا۔ اِمَّغَطَ الشیءُ: کھنچنا، لمبا ہونا۔ المُغَیط: گوند صفت مادہ جس سے دھاگے بنائے جاتے ہیں، جن [illegible] اقسام کے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ (لفظ عوامی ہے فصیح مَطّاط ہے)۔ المُمَغَّط: بہت لمبا۔

مُتَمَغِّط: جسے تانا، پھیلایا اور کھینچا جا سکے، سکڑنے والا، پھیلنے والا، لچکدار (ربڑ)، سخت لیس دار، جس پر لیسدار تہہ جم گئی ہو۔

مَغْطَسَ ہ: کو مقناطیسی قوت دینا، کو مقنانا، کو مقناطیسی بنانا۔ تَمَغْطَسَ: مقناطیسی ہو جانا، مقناطیسی قوت دیا جانا۔ مَغْطَسَہ: مقناطیسی قوت، مقناطیسیت۔ مُمَغْطَس: مقناطیسی قوت دیا گیا، مقناطیسی۔

مغل: ۱۔ مَغَلَ ـ مَغْلاً ت الدابۃُ: سبزی کے ساتھ مٹی کھانے سے جانور کے پیٹ میں درد ہونا۔ صفت مَغِلَۃ و مَمْغُولَۃ اسم: المَغْلَۃ ـــ مَغْلاً و مَغَالَۃً بالرجُل: کی چغلی کھانا۔ مَغِلَ ـ مَغَلاً ت الدابۃُ: سبزی کے ساتھ مٹی کھانے سے جانور کے پیٹ میں درد ہونا ـــ ت عینُہُ: آنکھ کا خراب ہونا۔ اَمْغَلَ القومُ: ایسے جانوروں کا مالک ہونا جن کے پیٹ میں مٹی ملی گھاس کھانے سے درد ہو گیا ہو ـــ بہ عند السلطان: سلطان سے کی چغلی کھانا۔ المَغَل جمع اَمْغَال: آنکھ کا کیچڑ۔ المَغْلَۃ جمع مِغَال: مغل کا اسم مرۃ، فساد، خرابی۔ المَغَالَۃ (مص): خیانت، دغابازی۔

۲۔ مَغِلَ ـ مَغَلاً ت الحاملُ بولدها: حاملہ کا بچے کو دودھ پلانا۔ اَمْغَلَت الحامِلُ ولدَها: حاملہ کا بچے کو دودھ پلانا۔ المَغْل و المَغَل جمع اَمْغَالُ: حاملہ عورت کا دودھ۔ المَغْلَۃ جمع مِغَال: دنبی یا بکری جو سال میں دو دفعہ بچے دے۔

۳۔ المُغْل جمع مُغُول: مُغل (ایک نسل کا نام)۔

مغن: ۱۔ مَغْنَطَ الحدیدَ: لوہے کو مقناطیس پلانا۔ تَمَغْنَطَ: لوہے کا مقناطیس پینا۔ المَغْنَطِیس و المَغْنَاطِیس (ف): ایک دھات جو لوہے اور دیگر دھاتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مقناطیس (یونانی لفظ)۔

۲۔ المَغْنُولیا (ن): درخت اور پودے جن پر بڑے بڑے خوبصورت پھول اگتے ہیں۔

۳۔ المَغْنِیسیا و المنازیا: سفید مٹی جس کی نہ بو ہوتی ہے نہ ذائقہ، علاج کے کام میں آتی ہے (یونانی لفظ)۔ مگنیشیا (magnesia)۔

مغو: مَغَا یَمْغُو مَغْوًا السنورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ المُغَاء و المُغُوّ: بلی کی میاؤں میاؤں۔

مغي: مَغَی یَمْغِی مَغْیًا: ایسی بات کرنا جو سمجھ میں آ سکے۔ تَمَغَّی الادیمُ: چمڑے کا ڈھیلا ہونا۔ المَغْی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(مص) في الاديم: چمڑے کا ڈھیلا پن ــ في الانسان: کسی کے متعلق وہ کہنا جو اس میں نہ ہو، مذاق میں یا سنجیدگی سے ـ الماغِيَة: شک پیدا کرنے والی۔

خَشَبُ المُغْنَة و خشبُ المُغْنَى: مہوگنی لکڑی (جو امریکہ میں پائی جاتی ہے) ـ مَغْنَطَ ہ: کو مقناطیسی قوت دینا، کو مقناطیسی بنانا ـ مغنطیس: مقناطیس ـ مغنطیس کُهرَبَاني: برقی مقناطیس (electro magnet) ـ مغناطِيس و مَغْنَاطِيس: مقناطیس، مقناطیسی قوت، مقناطیسیت ـ مِغْنَطِيسِي: مقناطیسی، تنویمی (Hypnotic) ـ مغنطیسِيَة و مغناطيسية: مقناطیسی قوت، مقناطیسیت ـ مغنيسيا: (magnesia) مگنیشیا ـ المُغُول: منگولی، مغل (نسل) ـ بلادُ المُغول: منگولیا ـ مُغُولِيّ: منگولین (Mongolian)۔

مقّ: امَقّ ـ مَقًّا الشيءَ: کو پھاڑ کر کھولنا ــ اللّٰهُ عينه: اللہ کا کسی کی آنکھ اکھاڑ دینا ـ المَقَق: دو چیزوں کے درمیان کی دوری، پتلے پن کے ساتھ بہت لمبائی ـ بلدٌ امَقّ م مَقّاء جمع مُقّ: فراخ و وسیع شہر، پتلا اور بہت لمبا۔

۲ـ مَقّ ـ مَقًّا الولدُ من الابريق: لڑکے کا لوٹے سے پانی چوسنا (عام زبان میں) ـ مَقَّقَ الطائر فرخهُ: پرندے کا اپنے بچے کو چوگا دینا ــ علی عياله: اپنے اہل و عیال کے خرچ و اخراجات میں بخل یا ناداری سے تنگی کرنا ـ تَمَقَّقَ الشرابَ: شراب کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ــ ما في العظم: ہڈی کا سب گودا نکال لینا ــ وامْتَقّ الفصيلُ ما في الضرع: بچے کا تھن میں سے سب دودھ پی جانا ـ المَقْقَه: دودھ پینے والے بکری کے بچے، نبیذ تھوڑی تھوڑی کر کے پینے والا ـ فخذٌ مَقَّاء: گوشت سے ننگی ران، ران جس پر گوشت نہ ہو۔

۳ـ مَقَّ ـ مَقًّا العنبُ: نرم گودے والا ہونا (انگور کا) صفت مَقَاق۔

۴ـ المَقَقَة: جاہل لوگ۔

۵ـ مَقْمَقَ: نرم اور آسانی سے مطیع ہو جانا ــ الشيءَ: کو سدھانا، زیر کرنا ــ الولدُ امّهُ: بچے کا اپنی ماں کے پستان کو سختی سے چوسنا ـ المُقَامِق: حلق کے آخری حصہ سے بولنے والا۔

مقت: مَقَتَ ـ مَقْتًا و مَاقَتَ الرجُلَ: سے بہت بغض رکھنا، نفرت کرنا ـ مَقُتَ ـ مَقَاتَةً فلانٌ إليّ: مجھے فلاں سخت ناپسند ہے ـ مَقَّتَ هُ: سے سخت بغض رکھنا ــ هُ اليَّ قبحُ فعلِهِ: اسکے کام کی برائی نے اسے میرے نزدیک قابل نفرت بنا دیا ـ تَمَقَّتَ إليّ: مجھے ناپسند ہونا ـ تَمَاقَتُوا: بعض کا بعض سے بغض رکھنا ـ المَقْت (مص): زواج المقت، باپ کی بیوہ سے شادی ـ المَقْتِي: باپ کی بیوہ سے شادی کرنے والا ـ المَقِيت: قابل نفرت۔

مَقَتَ ـ مَقْتًا ہ: سے سخت نفرت کرنا، کراہت کرنا ـ مَقُتَ ـ مَقَاتَةً: نفرت انگیز ہونا، قابل نفرت ہونا، نفرت کیا جانا، کریہ ہونا ـ مَقَّتَ بمعنی مَقَتَ ـ مَقَّتَ ہ الی: کو کے نزدیک قابل نفرت بنانا ــ إلى ہ: کو سے سخت نفرت کرانا ـ مَقْت: نفرت، بے حد نفرت، سخت نفرت، بیزاری، کراہت، تنفر، قابل نفرت، نفرت انگیز، کریہ ـ مَقِيت و ممقوت: نفرت کیا گیا، قابل نفرت، نفرت انگیز، کریہ، سخت ناپسند۔

مقر: امَقَرَ ـ مَقْرًا عنقه: کی گردن پر لاٹھی مار کر ہڈی توڑ دینا۔

۲ـ مَقَرَ ـ مَقْرًا السمكةَ المالحةَ: نمکین مچھلی کو سرکہ میں ڈالنا ـ مَقِرَ ـ مَقَرًا الشيءُ: چیز کا کڑوا یا کھٹا ہونا ـ صفت مَقِرٌ ـ أَمْقَرَ السمكةَ المالحةَ: نمکین مچھلی کو سرکہ میں ڈالنا ــ الشيءُ: کڑوا ہونا ــ اللبنُ: دودھ کا بے مزہ ہونا۔

۳ـ اِمْتَقَرَ الركيّةَ: کنویں کا پانی نکلنے کے بعد اس کو کھودنا۔

۴ـ اِمْقَرَّ اِمْقِرَارًا الرجُلُ: کی رگوں کا ابھرنا۔

۵ـ المَقْر و المَقِر (ن): ایلوا۔

مقس: امَقَسَ ـ مَقْسًا القربةَ: مشک بھرنا ــ الشيءَ في الماء: چیز کو پانی میں ڈالنا یا ڈبونا ـ مَقِسَ ـ مَقَسًا ت نفسُهُ: کا جی متلانا ـ مَقَّسَ الماءَ: پانی بہت گرانا ـ مَاقَسَ مُمَاقَسَةً هُ: سے غوطہ خوری میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے هو يُمَاقِسُ حُوتًا: وہ غوطہ خوری میں مچھلی سے مقابلہ کرتا ہے یعنی وہ اپنے سے زیادہ طاقت ور سے جھگڑتا ہے ـ تَمَقَّسَ ت نفسُهُ: کا جی متلانا۔

۲ـ مَقَسَ ـ مَقْسًا الماءُ: پانی بہنا..... فلانٌ في الارض: ملک میں پھرنا۔

مقط: امَقَطَ ـ مَقْطًا هُ: کو غضبناک کرنا۔

۲ـ مَقَطَ ـ مَقْطًا هُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا ــ عنقَهُ: کی گردن توڑنا ـ الكُرَةَ: گیند کو زمین پر مار کر اٹھانا ــ بالقِرن و مَقَطَهُ: مقابل کو پچھاڑنا ـ مَقَّطَ هُ: کو پچھاڑنا ـ الماقِط (فا): کنکر گرا کر شگون لینے والا۔

۳ـ مَقَطَ ـ مَقْطًا الشيءَ: کو باندھنا، کو مضبوط رسی سے باندھنا ــ هُ بالأيمان: کو قسم دلانا ــ الحبلَ: رسی بٹنا ـ مَقَّطَ الإبلَ: اونٹوں کو رسی سے باندھنا ـ الماقِط: ڈول کی رسی ـ المُقْط جمع أَمْقَاط: پرندہ شکار کرنے کا دھاگا ـ المِقَاط جمع مُقُط: چھوٹی مضبوط بٹی ہوئی رسی۔

۴ـ مَقَطَ ـ مَقْطًا الشيءَ: کے گھونٹ پینا۔

۵ـ المَقِط: چھ ماہ میں پیدا ہونے والا بچہ۔

مَقْدُونِس: اجوائن خراسانی (parsely)۔ مَقْدُونِي: صفت اور اسم: مقدونیا کا، مقدونیا کا باشندہ۔

مقع: امَقَعَ ـ مَقْعًا الشرابَ: شراب کو حرص سے پینا ــ الفصيلُ امّهُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا ـ إمْتَقَعَ الفصيلُ ما في ضرع امّه: بچہ کا اپنی ماں کے تھن کا سب دودھ پینا۔

۲ـ مَقَعَ ـ مَقْعًا هُ بشرّ: پر تہمت لگانا ـ اُمْتُقِعَ: کا غم، خوف یا شک سے رنگ بدلنا ـ المَقْع (مص) جمع أَمْقُع: ٹھہرا ہوا پانی۔

مَقَعَ ـ مَقْعًا ہ: کو شوق یا حرص سے پینا، کو پھینکنا ـ اُمْتُقِعَ: پیلا پڑ جانا ـ مُمْتَقَع: پیلا، زرد، پھیکا، بے رونق، زرد رو، پھیکا زرد۔

مقل: امَقَلَ ـ مَقْلًا هُ: کو پانی میں ڈبونا ــ في الماء: پانی میں غوطہ لگانا ــ المَقْلَةَ: برتن میں کنکری ڈال کر اس پر اتنا پانی ڈالنا کہ ڈھک جائے ـ مَاقَلَ هُ و تَمَاقَلَا: ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دینا ـ اِمْتَقَلَ: پانی میں بار بار غوطہ لگانا ـ المَقْل (مص): کنویں کی تہہ۔ کنویں کی تہہ کی مٹی و کنکری۔ سمندر میں غوطہ لگانے کی جگہ ـ المَقْلَة: مقل کا اسم مرۃ۔ پانی کا اندازہ لگانے کی کنکری جس سے ناپ ناپ کر سفر میں پانی تقسیم کیا کرتے تھے تاکہ پانی کی تقسیم سب پر برابر ہو جائے اور کسی کو کم یا زیادہ نہ پہنچے۔

۲ـ مَقَلَ ـ مَقْلًا هُ: کی طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے مَقَلَتْهُ عيني: اسے میری آنکھ نے دیکھا ـ ما مقلَتْ عيناي مِثْلَهُ: میری آنکھوں نے اس جیسی چیز نہیں دیکھی ـ المُقْلَة جمع مُقَل: آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ۔

۳ـ المُقْل (ز): گوگل کا پھل، گوگل (ن): کھجور سے مشابہ ایک درخت۔

مَقَلَ ـ مَقْلًا هُ: کو دیکھنا، کی طرف نگاہ کرنا ـ مُقْلَة جمع مُقَل: آنکھ، آنکھ کا ڈھیلا ـ مُقْلَةُ العين: آنکھ کا ڈھیلا۔

مقه: امَقِهَ ـ مَقَهًا: سرخ پلکوں والا ہونا صفت أَمْقَه۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الأَمْقَهُ م مَقْهَاء جمع مُقْه: سرخ پلکوں والا۔
۲۔ المَقَه: ہلکا نیلا رنگ۔ الأمقه م مقهاء جمع مُقْه: دور، جگہ جہاں درخت نہ اگتے ہوں، بنجر جگہ، خودسر جو یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کدھر جاتا ہے۔
مقو: مَقَا يَمْقُو مَقْواً السيفَ: تلوار کو صیقل کرنا۔۔۔ الفصيلُ أمَّهُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ سختی سے چوسنا۔۔۔ الطستَ: طشت کو دھونا۔ مَقَى يَمْقِي مَقْياً السيفَ: تلوار صیقل کرنا۔
مك: امَكَّ ـُ مَكّاً العظمَ: ہڈی کا تمام گودا چوسنا۔۔۔ الشيءَ: کو ہلاک کرنا۔۔۔ غريمَهُ: قرضدار سے وصولی میں اصرار کرنا۔ مَكَّكَ على غريمه: قرضدار سے وصولی میں اصرار کرنا۔ تَمَكَّكَ و امْتَكَّ العظمَ: ہڈی کا سارا گودا چوس لینا۔۔۔ الفصيلُ ما في ضرع امه: بچہ کا اپنی ماں کے تھن کا سب دودھ چوس لینا۔ المُكَاكُ و المُكَاكَة: ہڈی کا مغز یا گودا۔ المَكُّوك جمع مَكَاكِيك: پینے کا پیالہ۔
۲۔ المَكُّوك جمع مَكَاكِيك: (1½) صاع کا ایک پیمانہ۔ کپڑا بننے کی نالی (ارمنی لفظ)۔
۳۔ مَكْمَكَ الرجلُ: چلنے میں لڑکھڑانا۔۔۔ المخَّ: ہڈی کا سارا گودا چوسنا۔ تَمَكْمَكَ العظمَ: ہڈی کا سارا گودا چوس لینا۔
⊙ مَكَّة: عموماً مكة المُكَرَّمَة: مکہ معظمہ۔ مَكِّيّ: صفت و اسم: مکہ کا، مکہ کا باشندہ۔ مَكُّوك جمع مَكَاكِيك: پینے کا پیالہ۔ جلاہے کی نال۔ (shuttle) مَاكُوك جمع مَوَاكِيك: پینے کا پیالہ، جلاہے کی نال (shuttle)۔
مكث: مَكَثَ ـُ مَكْثاً و مَكَثاً و مُكُوثاً و مُكْثاناً و مِكِّيثَى و مِكِّيثَاء بالمكان: کسی جگہ قیام کرنا، ٹھہرنا، صفت مَاكِث: اسم: المُكث و المِكث۔ مَكُثَ ـُ مَكَاثَةً: ٹھہرنا، صبر کرنا، سنجیدہ ہونا۔ أمْكَثَ هُ: کو ٹھہرنے کے لئے کہنا۔ تَمَكَّثَ: کسی بات کا انتظار کرنا، پر توجہ مرکوز کرنا۔۔۔ بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔۔۔ في الامر: میں ذرا رکنا۔ المَكِيث جمع مُكَثاء و مَكِيثُون: ٹھہرنے والا، سنجیدہ و صابر، سست۔
⊙ مَكَثَ ـُ مَكْثاً و مُكُوثاً ب: کسی جگہ میں رہنا، ٹھہرنا، قیام کرنا، اقامت کرنا۔ مَكْث و مُكُوث: رہنا، ٹھہرنا، دیر لگانا، اقامت گزین ہونا، قیام، عارضی قیام۔
مكد: امَكَدَ ـُ مَكْداً و مُكُوداً بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا صفت ماكِد۔ ماءٌ مَاكِد: جاری پانی۔ ناقةٌ ماكِدة و ناقةٌ مَكداء و مَكُود جمع مُكُد و مَكَائِد: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔
۲۔ المِكَد: کنگھی۔
⊙ مَكْدَام: پکی سڑک (انگریزی لفظ)۔ مَكْدُونِي: صفت اور اسم: مقدونیا کا، مقدونیا کا باشندہ۔ مكدونيا: مقدونیا۔
مكر: امَكَرَ ـُ مَكْراً الرجلَ و به: کو دھوکا دینا۔۔۔ اللّٰهُ فلاناً: اللہ تعالیٰ کا کسی کو دھوکہ دینے کی سزا دینا۔ مَاكَرَهُ: کو دھوکا دینا، فریب دینا۔ أَمْكَرَهُ: کو دھوکا دینا۔۔۔ هُ اللّٰهُ: کو دھوکہ دینے کی سزا دینا۔ تماكروا: بعض کا بعض سے حیلہ کرنا۔ الماكِر جمع مَكَرَة و مَاكِرُون: دھوکا دینے والا۔ المَكْر (مص) دھوکا۔ دھوکے کی سزا۔ المَكْرَة جمع مَكَر و مُكُور: مکر کا اسم مرۃ۔ جنگ میں تدبیر و حیلہ۔ المَكَّار و المَكُور: بہت مکر و فریب کرنے والا۔
۲۔ مَكَرَ ـُ مَكْراً الثوبَ: کپڑے کو گیرو سے رنگنا۔۔۔ هُ: کو رنگنا۔ مَكِرَ ـَ مَكَراً: سرخ ہونا۔ امْتَكَرَ و امْتُكِرَ: سرخ رنگ سے رنگا جانا، سرخ رنگ ہونا۔ المَكْر: گیرو۔
۳۔ مَكَرَ ـُ مَكْراً الارضَ: زمین کو سیراب کرنا۔ المَكْرَة جمع مَكْر و مُكُور: کھیت کی سیرابی۔ (ن): بے پھول کا درخت، خوبصورت موٹی پنڈلی۔
۴۔ مَكَّرَ: غلہ جمع کرنا، گرانی کی امید میں اناج روکے رکھنا۔
۵۔ المِيكْرُوسْكُوب: یونانی لفظ: خوردبین (microscope)۔ اس کی عربی مُجْهِر ہے۔
⊙ مَكَرَ ـُ مَكْراً ب: کو دھوکا دینا، بہکانا، سے دغا بازی کرنا، سے بے ایمانی کرنا، کو جل دینا، ٹھگ لینا، کو فریب دینا، سے دورخی سے کام لینا۔ مَاكَرَه: کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا۔ مَكْر: عیاری، چالاکی، مکاری، روباہ خصلتی، دھوکے بازی، منافقت، چالبازی، فریب، دھوکا، دغا۔ مَكْرَة: چال، حیلہ، چالبازی، داؤ، فریب، دھوکا، داؤ پیچ۔ مَكَّار و مَكُور: چالاک، عیار، مکار، کایاں، فریبی، چالباز، زیرک، ٹھگ، دھوکے باز، دغا باز۔ مَاكِر جمع مَكَرَة: چالاک، عیار، مکار، فریبی، چالباز۔ مِكْرُوب جمع مِكْروبات و مَكَارِيب: جرثومہ (microbe)۔ مَكَرُونَة: سیویاں (macaroni)۔
مكس: مَكَسَ ـِ مَكْساً: ٹیکس جمع کرنا۔۔۔ في البيع: [illegible] خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا۔ مَاكَسَ مِكَاساً و مُمَاكَسَةً هُ: سے قیمت کم کرانا، کی مخالفت کرنا۔ تَمَاكَسَ الرجلان في البيع: خرید و فروخت میں آپس میں جھگڑنا۔ المَكْس (مص) جمع مُكُوس: محصول، چونگی، ٹیکس۔ الماكِس و المَكَّاس: ٹیکس وصول کرنے والا، اسے صاحب المكس بھی کہتے ہیں۔
⊙ مَكَسَ ـِ مَكْساً و مَكَّسَ: ٹیکس جمع کرنا۔ مَاكَسَ هُ: کے ساتھ سودا کرنا، معاملہ طے کرنا، سے بول تول کرنا۔ مَكْس جمع مُكُوس: ٹیکس خصوصاً ایکسائز یا سیلز ٹیکس، ٹال (toll)، کسٹم ڈیوٹی، محصول، منڈی کے واجبات (market dues)۔ دارُ المكوس: کسٹم ہاؤس۔ مَكَّاس: ٹیکس کلکٹر۔ المَكْسِيك: میکسیکو (Mexico)۔
مكن: امَكُنَ ـُ مَكَانَةً عند الامير: حاکم کے ہاں رتبہ اور اعتبار والا ہونا۔۔۔ الشيءُ: قوی مضبوط اور پختہ ہونا صفت مَاكِن۔ مَكَّنَهُ من الشيءِ: کو پر قدرت دینا، اختیار دینا، کو پر قادر بنانا۔۔۔ الشيءَ فَتَمَكَّنَ: کو قوی مضبوط اور پختہ بنانا اور قوی مضبوط اور پختہ ہو جانا۔ أَمْكَنَ الامرُ فلاناً و لفلان: کام کا کسی پر آسان ہونا، کے لئے ممکن ہونا، کر سکنا۔ کہا جاتا ہے: فلان لا يمكنه النهوض: فلاں کھڑا نہیں ہو سکتا، اٹھ نہیں سکتا۔ و أَمْكَنَنِي الامرُ: کام میرے لئے ممکن ہوا، آسان ہوا۔۔۔ هُ من الشيءِ: کو کے قابل بنانا، کو پر اختیار دینا، قدرت دینا، قادر بنانا۔ تَمَكَّنَ عند الامير: حاکم کے ہاں بلند و صاحب مرتبہ ہونا۔۔۔ المكانَ و به: کسی جگہ مضبوط اور جمے ہوئے قدموں والا ہونا۔۔۔ و اسْتَمْكَنَ من الامر: پر قادر ہونا، کامیاب ہونا۔ المُكْنَة: طاقت، شدت۔ المَكِنَة: تمکن۔ المَكَان جمع أَمْكِنَة و أَمْكُن و جمع الجمع أَمَاكِن: جگہ۔ کہا جاتا ہے هو من العلم بمكان: اس کو علم میں ایک خاص مرتبہ اور درجہ حاصل ہے۔ هذا مكانُ هذا: یہ اس کی جگہ۔ المَكَانَة (مص) جمع مَكَانَات: منزلت، مرتبہ، بلندی، شان، آہستگی۔ کہا جاتا ہے: امْشِ على مكانتك: متانت اور وقار کے ساتھ چل۔ المَكِين جمع مُكَنَاء: مرتبہ والا۔ کہا جاتا ہے هو مكين عند الامير: وہ حاکم کے نزدیک مرتبہ والا ہے۔ المَكِينَة: آہستگی۔ کہا جاتا ہے: امْشِ على مَكِينَتِك: آہستگی سے چل۔ هو أَمْكَنُ من غيره: وہ دوسروں سے زیادہ مرتبہ اور حیثیت والا ہے۔ المُتَمَكِّن في علم النحو: وہ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کلمہ جومبنی نہ ہو۔ المُتَمَکِّنُ الأَمْکَن: منصرف اسم المُتَمَکِّنُ غیرُ الأَمْکَن: غیر منصرف اسم غیر المتمکن فی عند النحو: غیر منصرف جیسے کیفَ و اینَ۔

۲۔ مَکِنَ ۔مَکَنَات الجرادۃُ و نحوھا: ٹڈی کا انڈے دینا۔ یا انڈوں والی ہونا صفت مَکُون جمع مِکان۔ أُمْکَنَت الجرادۃُ: ٹڈی کا انڈے دینا۔ المَکْن و المَکِن واحد مَکْنَۃ و مَکِنَۃ جمع مَکْنَات و مَکِنَات: ٹڈی وغیرہ کے انڈے۔

○ المُکَلاّ: عدن کی بحری بندرگاہ، حضرموت کا بڑا شہر۔

○ مَکُنَ ۔مَکَانَۃً: مضبوط ہونا یا ہو جانا ــــ عند: کے ہاں با اثر ہونا، ذی اثر ہونا، رسوخ رکھنا، غلبہ اور زور کا مالک ہونا۔ مَکَّنَہ: کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، جوڑنا، گہرا کرنا، مضبوطی سے قائم کرنا، کو وزن دینا، وقعت دینا، کو مضبوطی سے رکھنا، کو مضبوط موقف فراہم کرنا۔ ــــہ من: کو کچھ کرنے کے قابل بنانا، کو کچھ کرنے کا امکان دینا، کو کے قابل بنانا، کیلئے کچھ ممکن کرنا ــــ من ہ: کو کے ہاتھ میں رکھنا ــــہ من: کو کچھ مہیا کرنا، فراہم کرنا ــــ ل: کو مضبوط پوزیشن دینا ــــ ل فی: کو پر اختیار دینا۔ أَمْکَنَہ من: کو کچھ کرنے کے قابل بنانا ــــہ: کیلئے ممکن ہونا، قابل عمل ہونا۔ یمکنہ ان: وہ کچھ کرسکتا ہے یُمْکِنُ ان: یہ ممکن ہے کہ، ایسا ہوسکتا ہے کہ۔ اکثرَ ما یمکن: جس قدر ممکن ہے۔ لا یُمکن: یہ ناممکن ہے۔ تَمَکَّنَ عند: کے ہاں اثر ورسوخ رکھنا، حاصل کرنا، قدر و وقعت رکھنا، وقار رکھنا، اختیار رکھنا یا حاصل کرنا۔ تَمَکَّنَ: دیسی یا ملکی ہونا، مقیم ہونا، باشندہ ہونا، پھیلنا، مستحکم ہونا، طاقت پکڑنا۔ ــــ من: سے استفادہ کرنا، کا قبضہ لینا، پر قابو پانا، پر پورا غلبہ رکھنا، پر قدرت حاصل کرنا ــــ من: کی پوزیشن میں ہونا، کر سکنے کے قابل ہونا، کے قابل ہونا، کرنے کی طاقت رکھنا۔ اِسْتَمْکَنَ: مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، گہرا ہونا، مضبوطی سے قائم ہونا ــــ من: سے فائدہ اٹھانا، کا قبضہ لینا، پر غلبہ رکھنا، کو قابو میں رکھنا، کو زیر کرنا، پر کمال حاصل کرنا، کو کرنے کے قابل ہونا، کے لائق ہونا۔ مُکْنَۃ و مَکِنَۃ: طاقت، قابلیت، حیثیت، لیاقت، استعداد، ذہنی صلاحیت، امکان، قوت، مضبوطی، استواری، شدت، تیزی، طاقت، توانائی دم خم، زور، قوت۔ مَکَان جمع اَمْکِنَۃ و اَمَاکِن: جگہ۔ مَکِین جمع مُکَنَاء: مضبوط، قوی، ٹھوس، مضبوطی سے قائم، غیر متزلزل، گہری بنیاد پر مبنی، جو گھر کر چکی ہو، گہری، پکی، پختہ، راسخ، شدید، گہرا، پکا، با اثر، ممتاز، طاقت ور، اثر آفریں۔ بِقدر الامکان یا علی قدر الامکان: جس قدر ممکن ہے، جہاں تک ممکن ہے: عدمُ الامکان: ناممکن بات، امر محال۔ عندَ الامکان: جب (اگر) ممکن ہو، شاید، کسی طرح۔ فی امکانہ أن: یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ھو فی الامکان: یہ امکان کی قلمرو میں ہے۔ لیس فی الامکان: یہ ناممکن ہے، ناقابل تصور ہے، ناقابل یقین ہے۔ إمکانیۃ جمع إمکانیات: ممکن (بات)۔ امکان احتمال، امکانی صورت پوشیدہ طاقت۔ من الممکن أن: ممکن ہے کہ، حسب امکان، حتی الامکان۔ شاید۔ مُمْکِنَات: امکانات۔ مُتَمَکِّن فی جلستِہِ: مضبوطی سے جما ہوا۔ مَکِنَہ و ماکِینہ جمع ماکینات و مکائن: مشین۔ مَکَنی: مکینیکل۔

مکو: ۱۔ مَکَا یَمْکُو مُکَاءً و مُکُوًّا: منہ سے سیٹی بجانا۔ المُکَّاء جمع مَکَاکِیّ (ح): سیٹی بجانے والا ایک پرندہ۔ المَکْوَۃ: سرین، چوتڑ۔

۲۔ مَکِیَ یَمْکی مَکَاتْ یدُہُ: کام کی زیادتی سے کے ہاتھوں میں چھالے پڑنا۔ تَمَکَّی تَمَکِّیًا الفرسُ: گھوڑے کا پسینہ سے بھیگنا۔

۳۔ المَکَی و المَکْو جمع اَمْکَاء: خرگوش وغیرہ کا بل (بھٹ)۔

مل: ۱۔ مَلَّ ۔مَلًّا علیہ السفرُ: پر یا کیلئے سفر دراز ہونا۔ ۔مَلَلًا و مَلَالًا و مَلَّۃً و مَلَالَۃ الشیءَ و من الشیءَ: سے اکتانا، زچ ہونا۔ اَمَلَّ علیہ السفرُ: کیلئے یا پر سفر دراز ہونا ــــہُ بالامر و اَمَلَّ علیہ الامرُ: پر کام کا گراں گزرنا اور باعث ملال و بے چینی ہونا ــــہُ الشیءَ: کو سے اکتانے اور زچ ہونے دینا۔ اِسْتَمَلَّ الشیءَ: سے اکتانا، تنگ آنا۔ المَلّ (مص): رجُلٌ مَلٌّ: اکتایا ہوا۔ المَلَّۃ: اسم مرۃ، اکتاہٹ سے تنگ آنا۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ مَلَّۃ: جلد اکتانے والا آدمی۔ المَلَل و المَلَال: اکتاہٹ، بیقراری۔ المَالُولَۃ و المَلَالَۃ و المَلُول و المَلُولَۃ: مذکر و مؤنث دونوں کیلئے، اکتایا ہوا، بے قرار، تاء مبالغہ کی ہے۔ الشیءُ المَمْلُول: باعث ملال (اکتاہٹ) چیز۔

۲۔ مَلَّ ۔مَلًّا الشیءَ فی الجمر: چیز کو انگاروں پر رکھنا، رکھنے والا۔ مالّ: اور رکھی ہوئی چیز۔ مَمْلُول و مَلِیل ــــ السہمَ بالنار: تیر کو آگ سے سیدھا کرنا ــــ اللحمَ و الخبزَ: گوشت یا روٹی کو بھوبھل میں رکھنا ــــ ۔مَلَلًا: کو ملال لاحق ہونا۔ غم یا بیماری سے تڑپنا ــــ الشیءَ: کو الٹ پلٹ کرنا ــــ المحمومُ: بخار والے کا بیکل ہونا۔ مَلَّلَ تَمْلِیلًا الشیءَ: کو الٹ پلٹ کرنا۔ تَمَلَّلَ: غم یا بیماری سے تڑپنا ــــ اللحمُ علی النار: گوشت کا آگ پر چلبلانا ــــ مِلَّۃَ کذا: کوئی مذہب اختیار کرنا۔ اِمْتَلَّ الخُبزَۃ: بھوبھل میں روٹی پکانا ــــ مِلَّۃَ کذا: کوئی مذہب اختیار کرنا۔ المَلَّۃ: چنگاری، بھوبھل، بخار کا پسینہ۔ خُبزُ المَلَّۃ: بھوبھل میں پکائی ہوئی روٹی۔ المِلَّۃ جمع مِلَل: مذہب، اعتقاد۔ المُلّی: بھوبھل میں پکائی ہوئی روٹی۔ الملال: غم یا بیماری سے تڑپنا، کمر درد، پیٹھ کا درد، ہڈی کے اندر کی گرمی، بخار کا پسینہ۔ المَلِیل: بھوبھل میں بھونا ہوا۔ کریلنی ــــ من الطُرُق: بہت زیادہ آمد و رفت والا راستہ۔ رجُلٌ مَلِیل: جسے دھوپ نے جھلسا دیا ہو۔ المَلِیلَۃ: اندرونی بخار، پیاس کی شدت۔ المُمَلّ من الطرق: بہت آمد و رفت والی سڑک۔ المَمْلُول: بھوبھل میں بھونا ہوا۔

۳۔ مَلَّ ۔مَلًّا فی الشیء: چلنے میں جلدی کرنا۔ تَمَلَّلَ فی المشیء: چلنے میں جلدی کرنا۔ اِمْتَلَّ فی المشیء: چلنے میں جلدی کرنا۔ اِنْمَلَّ: مدقوق ہونا۔

۴۔ مَلَّ ۔مَلًّا الثوبَ: کپڑے پر لنگر کرنا، کپڑے کو کچا کرنا۔ المُلَّۃ جمع مُلَلٌ: لنگر، کچی سلائی، ٹانکا۔

۵۔ أَمَلَّ إِمْلَالًا و أَمْلَی إِمْلَاءً ا الکتاب علی الکاتب: کو کچھ لکھوانا، املا کرانا۔

۶۔ المِلَّۃ جمع مِلَل: خون بہا۔ المُلَال: کمان کی پشت، تلوار کے قبضہ کی لکڑی۔ المَلُّول واحد مَلُّولہ (ن): بلوط درخت کی ایک قسم۔

۷۔ مَلْمَلَ: جلدی کرنا۔ المَلْمَلَی: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے: ناقۃ مَلْمَلَی: تیز رفتار اونٹنی۔

۸۔ مَلْمَلَہُ المرضُ: بیماری نے اس کو بے قرار کر دیا۔ تَمَلْمَلَ: بیماری یا غم سے بستر پر بے قرار ہونا، کروٹیں بدلنا ــــ الجالسُ: بیٹھنے والے کا کبھی ایک پہلو پر ٹیک لگانا اور کبھی دوسرے پر۔ المُلْمُول: سرمہ لگانے کی سلائی۔

۹۔ المَلْملۃ: ہاتھی کی سونڈ۔ المُلْمُول: ناک کا نتھنا۔

○ مَلَّ ۔مَلَلًا و مَلَالًا و مَلَالَۃ: تھکا ہوا ہونا، یا ہو جانا، تھکا ماندہ ہونا یا ہو جانا، اکتانا، بیزار ہونا، بیتاب ہونا ــــہ: سے تھک جانا، اکتا جانا، سے بیزار ہونا۔ لا یَمل: انتھک۔ اَمَلَّ: تھکا دینے والا ہونا، اکتا دینے والا ہونا، چور کرنے والا ہونا، پریشان کن ہونا، تکلیف دہ ہونا ــــہ/علی: کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا، برہم کرنا، کوغصہ دلانا، برافروختہ کرنا ــــــ ہ علی: کچھ کسی کو املا کرانا، کچھ کسی سے لکھوانا۔ تَمَلَّلَ: تھک جانا، اکتا جانا، بیزار ہوجانا، بور ہوجانا، بےقرار ہونا، چلبلا ہونا ــــــ مِلَّۃً کوئی مذہب اختیار کرنا۔ امتلّ ملّۃ کوئی مذہب اختیار کرنا۔ ملّ: تھکا ہوا، تھکا ماندہ، اکتایا ہوا، بیزار۔ مِلّۃ: مذہبی جماعت، مذہب، اعتقاد، عقیدہ، ایمان، اعتراف، فرقہ، گروہ۔ مَلّۃ: بھوبھل، جلتے انگارے۔ مِلّی: مذہبی فرقہ کا یا گروہی۔ مجلس ملّی (مصر میں) مذہبی اقلیت کی عدالت انصاف (جو 1956 سے ختم کردی گئی)۔ مُلّۃ جمع مُلَل: کچا بخیہ، لمبا ٹانکا، نگندا، سپرنگ دار پلنگ (spring mattress)۔ مَلَل و ملال: تھکاوٹ، بوریت، اکتاہٹ، برہمی، جھنجھلاہٹ، جھلاہٹ، ہیجان، پریشانی۔ ــــــ غیر صحت مندانہ، گڑبڑ، بےچینی، بےتابی، بےقراری، چلبلا پن، چلبلاہٹ، بےکلی (بخار کی وجہ سے)۔ ملالۃ: تھکاوٹ، بوریت، بےقراری، بےتابی، اکتاہٹ، بےکیفی، بےلطفی۔ مَلُول: تھکا ہوا، تھکا ماندہ، بور، تھکا دینے والا، اکتایا ہوا، بیزار، برگشتہ۔ مُلّی: بھوبھل میں پکائی ہوئی روٹی۔ مُمِل: تھکا دینے والا، اکتا دینے والا، اجیرن، ناگوار، بیزار کن، تکلیف دہ، گراں، مکروہ، کریہ، گھناؤنا، ناپسندیدہ، پریشان کن۔ مال جمع مِلات: فلسطین اور اردن کی سب سے چھوٹی نقدی وحدت فلسطینی پونڈ کا 1/1000۔

ملاٴ: املَأ ـ مَلْأً و مَلْأَۃً و مِلْأَۃً ہ: کو بھرنا...... الاناءَ ماءً و بالماء و من الماء: برتن کو پانی سے پورا بھرنا۔ صفت مفعولی مَمْلُوء: کہا جاتا ہے: نظرتُ الیہ فملأتُ منہ عینی: میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے اچھا لگا۔ ملأ علیہ الارضَ: اس نے اس پر زمین تنگ کردی۔ مَلِیءَ ـ مَلْأً: بھر جانا۔ صفت مَلْآن: (بھرا ہوا) مَلُؤَ ـ مَلاءً و مَلاءَۃً: بھرا ہوا ہوجانا ــــــ مُلِیءَ مَلاءَۃً: کو زکام ہوجانا۔ ملّأ تملئۃً: کو خوب بھرنا ــــــ فی قوسہ: کمان کو زور سے کھینچنا۔ املأہٗ: کو زکام لگا دینا۔ صفت مُلْآن ـ ــــــ فی النزع: کمان کو زور سے کھینچنا۔ تملّأ: بھر جانا ــــــ ت المرأۃُ: عورت کا چادر اوڑھنا۔ اِمتلأ من الطعام والشراب و غیرھما: کھانے اور مشروب سے پُر ہوجانا۔ استملأ فی دَینہ: معتبر دولتمند مقروضوں والا ہونا۔ المالیء فا: کہا جاتا ہے: رجلٌ مالیٌ: بڑا آدمی۔ شاب مالیُٔ العین: خوبصورت اور شاندار جوان۔ المِلْءُ جمع أَمْلاء: وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے۔ کہا جاتا ہے انّہ ینام مِلْءَ جفنہ: وہ بےفکر ہو کر سوتا ہے۔ فلانٌ مِلْءُ کِسائہ: فلاں موٹا ہے۔ المَلَأ جمع أَملاء: اشراف قوم، لالچ، گمان۔ کہا جاتا ہے ما أحسنَ مَلَأَ بنی فلان: فلاں قبیلہ والوں کے اخلاق اور رشتے دار کتنے اچھے ہیں۔ الملأُ الأعلی: عالم ارواح۔ المُلاء و المُلأۃ: زکام۔ المِلأۃ (مص): بھرنے کا طریقہ، پُرخوری۔ المُلاءَۃ: زکام۔ جمع مُلاء: چادر، تہ بند۔ المَلآن م مَلأی و مَلآنۃ جمع مِلاء: بھرا ہوا، زکام میں مبتلا۔ المَلِیْ و المَلِیُّ جمع مِلاء و أُملِئاء و مُلّاء: غنی، قرض ادا کرنے کے قابل۔ کہا جاتا ہے ھو أملأُ القوم: وہ قوم میں سب سے زیادہ اختیار کا مالک اور مال دار ہے۔ فلانٌ أملأُ لعینی من فلان: وہ فلاں سے زیادہ خوبصورت اور خوش شکل و صورت ہے۔

۲ـ ملأ ـ مَلْأً و مَلْأَۃً و مِلاءۃً علی الامر: کسی کام میں مدد کرنا۔ مالأ مُمالأۃً و مِلاءً علی الامر: کسی کام میں مدد کرنا۔ تمالأ القومُ علی الامر: لوگوں کا اکٹھا ہوکر کسی کام میں تعاون کرنا۔ المَلأُ جمع أملاء: قوم کی جماعت۔ آپس میں مشورہ۔ کہا جاتا ہے: ما کان ھذا الامر عن مَلَأٍ منّا: یہ کام ہمارے اجتماع و مشورہ کے بغیر ہوا۔

(ج) مَلأ ـ مَلْأً و مَلْأَۃً و مِلْأَۃً ہ من/ب: کو سے بھرنا۔ ــــــ ہ فارم یا خالی جگہ پُر کرنا ــــــ ہ: کو بھرنا، گھیرنا، خالی اسامی پُر کرنا۔ ملأ الدھرَ: اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ملأ الساعۃ: گھڑی یا گھنٹہ کو چابی دینا۔ ملأ شِدقیہ بالھواء: اپنے رخسار پھلانا۔ ملأ العینَ: آنکھ کو خوش کرنا، کے لئے تسلی بخش ہونا۔ ملأ الفضاء بالشکوی: فضاء کو شکایات سے بھر دینا۔ ملأ فاہ ب: کے بارے میں بڑی باتیں کرنا، کے متعلق منہ کھولنا۔ مَلِیءَ: بھرنا، بھر جانا۔ مالأہ علی: میں کی مدد کرنا، تائید کرنا، حمایت کرنا ــــــ ہ: کی طرف داری کرنا ــــــ ہ علی: کے خلاف کسی سے متحد ہونا۔ أملأ ہ: کو بھرنا (نیز خالی آسامی) کو پُر کرنا۔ تملّأ: بھرنا، بھر جانا ــــــ ہ/من: سے بھر جانا، سے پُر ہو جانا۔ اِمتلأ: بھرنا، پُر ہوجانا ــــــ ہ/من/ب: سے بھر جانا، سے پُر ہونا ــــــ ہ: کو بھرنا ــــــ ہ ہ: کے دل میں ڈالنا (احساس وغیرہ)۔ مَلْء: بھرنا (خالی جگہوں کو) بھرنا۔ مِلاء جمع أملاء: بھرنا، مقدار جو کسی چیز کو بھر دے، جتنے کی گنجائش ہو، مقدار جو کسی چیز میں سما سکے ــــــ مِلْءَ ... وہ مکمل طور پر ...

marfat.com

پسندی ہے۔ مِلْءَ بطنہ: پیٹ بھر۔ مِلْء قدح: پیالہ بھر۔ مِلْء الید: مٹھی بھر۔ مِلْء کسائہ: لحیم شحیم۔ بمِلْءِ فیہ: یقین کامل سے۔ بمِلْء الفم: بلند آواز سے۔ ضحِکَ بمِلْء (ملءَ) شِدقیہ: کھیس نکالنا۔ قال بصوتٍ مِلؤُہ الشفقۃُ: اس نے رحم بھری آواز میں کہا۔ لی مِلْءُ الحریۃ فی: مجھے ایسا کرنے کی کامل آزادی ہے۔ وقف موقفا مِلؤُہ الحزم: اس نے عزم مصمم سے پُر موقف اختیار کیا۔ انت مِلْء حیاتی: تم میری پوری زندگی ہو۔ ینام مِلْءَ جفنیہ: وہ گہری نیند سوتا ہے۔ مَلأ جمع أملاء: بھیڑ، اجتماع، اسمبلی، جماعت، حاضرین، سامعین، عام پبلک، عوام، بڑوں، ممتاز لوگوں یا بڑی شخصیات کی کونسل۔ علی الملأ: کھلم کھلا، علی الاعلان۔ علی ملأ العالم: ساری دنیا کے سامنے، سب کے سامنے۔ الملأ الاعلی: فرشتے، مقدس میزبان، آسمانی میزبان۔ مُلاءَۃ، مِلایۃ جمع مُلاءات: چادر، شال، کھیس وغیرہ۔ بستر کی چادر۔ ممتلیء البدن و مُمتلیء الجسم: جسیم، لحیم شحیم، موٹا، فربہ۔ ممالیٔ: طرف دار، جانبدار، متعصب، ہمکار (collaborator)

ملت: مَلَتَ ـ مَلْتًا ہٗ: کو ہلانا۔

ملث: مَلَثَ ـ مَلْثًا ہٗ: کو جھوٹے دعوے سے تسکین دینا، کو تھوڑا مارنا ــــــ الظلامُ: اندھیرے کا گڈمڈ ہونا۔ ــــــ ہٗ بالشر: کو بدی سے چھیڑنا۔ مالثَ مِلاثًا و مُمالثۃً ہٗ: سے کھیلنا، کی مداہنت کرنا، خوشامد کرنا۔ مَلْثُ اللیلِ و مَلَثُہٗ: رات کی پہلی تاریکی، شام کا اندھیرا، دھندلا پن۔

(ج) مَلاریا: ملیریا (بخار)۔ ملایو و جزرُ الملاریعہ الملایو: ملایا، ملایا کے جزیرے۔

ملج: امَلَجَ ـُ و مَلِجَ ـَ مَلْجًا الصبیُ أمَّہٗ: بچہ کا اپنی ماں کے پستان کو منہ میں لے کر دودھ پینا۔ أملجَ ہٗ: کو دودھ پلانا۔ اِمتلجَ ما فی الثدی: تھن یا پستان کا سارا دودھ چوسنا۔ المُلُج: دودھ پینے والے میمنے، بکری کے چھوٹے بچے۔ المَلِج: دودھ شریک بھائی۔

۲ـ المَالَج جمع مَوالِج: معمار کا لپائی کرنے کا آلہ، کرنی۔ المُلُج جمع أملاج: گوگل کی گٹھلیاں۔ المَلِیج: نامور یا عالی مرتبہ شخص۔ الأَملَج: بنجر، ریگستان، آملہ۔ الأُملُوج جمع أمالیج: نرم شاخ، درخت کی جڑ جو زم کرنے کے لئے گیلی مٹی میں دبائی جاتی ہے، ایک جنگلی درخت، سرو کی طرح کے پتے۔

(ج) مَلَجَ ـ مَلْجًا ہ: (ماں کا پستان) چوسنا۔ اِمتلج: چوسنا۔ مالَج جمع مَوالج: کرنی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ملح: ا۔مَلَحَ ۔مَلْحًا الطعامَ: کھانے میں نمک ڈالنا۔
ـــ الماشیةَ: مویشی کو تونی کھلانا۔ ـــ الطائرُ:
پرندے کا بہت پر پھڑ پھڑانا۔ کہا جاتا ہے: مَلَحَ اللّٰه
فیه: اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے۔ ۔ ۔
مَلُحَ ۔ مُلُوحَةً و مَلَاحَةً و مَلُوحًا الماءُ: پانی کا
کھاری ہونا۔ صفت مَلِیح و مَالِح: موخرالذکر کا
استعمال کم ہے۔ مَلِحَ ۔مَلَحًا: نیلگوں رنگ کا ہونا،
کے نیلے رنگ کا زیادہ ہونا۔ مَلَّحَ الشیءَ: چیز کو نمکین
کرنا، پر نمک ڈالنا۔ ـــ الطعامَ: کھانے میں نمک
زائد کرنا۔ ـــ السمكَ و نحوه: مچھلی وغیرہ پر نمک
لگانا۔ ـــ الدابّةَ: جانور کے جبڑے پر نمک کی مالش
کرنا۔ ـــ الماشیةَ: مویشی کو تونی کھلانا۔ مَالَحَ
مَلَاحًا و مُمَالَحَةً ہ: کے ساتھ کھانا۔ کہا جاتا ہے:
هو یحفظ حرمة الممالحة: وہ ساتھ کھانے کے
تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ ـــ فلانًا: کا دودھ شریک
ہونا۔ أَمْلَحَ الماءُ: پانی کا میٹھا ہونے کے بعد کھاری
ہوجانا۔ ـــ الشیءُ: چیز کا نیلگوں رنگ کا ہونا۔ ـــ
الطعامَ: کھانے میں نمک زائد کرنا۔ ـــ ت الإبلُ:
اونٹوں کا کھاری پانی پر آنا۔ ـــ الراعی الابلَ:
چرواہے کا اونٹوں کو کھاری پانی پلانا۔ تَمَلَّحَ الرجُلُ:
نمک توشہ میں لینا، نمک کی تجارت کرنا۔ ـــ البعیرُ:
اونٹ کا فربہ ہونا۔ اِمْلَحَّ الكبشُ: مینڈھے کا سیاہ و
سفید ہونا۔ المِلْح جمع مِلَاح۔ تصغیر مُلَیْحة (ك):
نمک (مذکر و مونث) ـــ جمع مِلَح و مِلْحَة و
مِلَاح و امْلاح: موٹاپا، چربی، رضاعت، حرمت،
معاہدہ۔ کہا جاتا ہے: بینهما مِلْحٌ: دونوں کے درمیان
معاہدہ ہے۔ فلانٌ مِلْحُهُ علی ركبتیه: وہ بے وفا
ہے یا وہ بہت جھگڑوں والا ہے، مولدین کے نزدیک۔
مِلْحه علی ذیله کا معنی ہے وہ ناشکرا ہے، احسان
ناشناس ہے۔ ماءٌ مِلْحٌ: کھارا پانی، اسے کبھی مالح بھی
کہتے ہیں۔ الـمَـلَح: سیاہی مائل سفیدی۔ بہت
نیلاہٹ، نیلگوئی۔ الـمُلْحَة: سیاہی مائل سفید، سخت،
نیلگون، برکت۔ المِلْحَة: کھاری (کہا جاتا ہے: بئرٌ
مِلْحَةٌ: کھاری کنواں) حرمت، معاہدہ۔ کہا جاتا
ہے: بینهما مِلْحَة: ان دونوں کے درمیان معاہدہ
ہے۔ المَلْحَة: اسم مرة، سمندر کی گہرائی۔ المِلَاح:
کشتی یا جہاز چلانے والی ہوا، نیزے کا پھل۔
المَلَاحَة: نمکین ہونا۔ المِلَاحَة: ملاحی، جہاز رانی،
سمندروں، دریاؤں اور فضاء میں سفر کا فن۔ کہا جاتا
ہے: مِلَاحة نهریة و مِلَاحة جوّیة: دریائی جہاز
رانی، فضائی جہاز رانی۔ الـمَلَّاح: نمک کا سوداگر یا

مالک، ملاح، کشتی بان ـــ عند العامة: رات کو
پڑنے والا پالا۔ مَلَّاحُو الجوّ: ہواباز، طیارچی۔
المُلَّاح واحد مُلَّاحة (ن): ایک نبات۔ المَلَّاحَة:
نمک کی کان، وہ جگہ جہاں نمک فروخت کیا جاتا ہے۔
المُلَاحِیّ و المُلَّاحِیّ: سفید لمبے انگور، ایک قسم کا
انجیر۔ المُلَاحِیَة: جہاز رانی کا پیشہ۔ المُلُوحَة
(مص): نمکینی۔ المَلِیح من الماء: کھارا پانی۔
سمكٌ مَلِیح: نمک لگا کر خشک کی ہوئی مچھلی۔
ابُو مُلَیح (ط): ایک قسم کا کھانا۔ عوام اسے فتّوش
کہتے ہیں۔ الأَمْلَح: شبنم۔ ـــ جمع مُلْح: سیاہ و سفید
رنگ والا۔ كبش أَمْلَح: سیاہ مینڈھا جس کے بالوں
پر سفیدی ہو۔ المَلْحاء جمع مَلْحَاوات: أَمْلَح کا
مؤنث۔ سیاہ و سفید رنگ والی، بڑی پلٹن۔
المَمْلَحَة: نمک کی کان۔ المِمْلَحَة: نمک دان۔
المُتَمَلِّح: نمک کا تاجر یا مالک۔

۲۔مَلَحَ ۔مَلْحًا الرجُلَ: کی غیبت کرنا۔

۳۔مَلُحَ ۔مَلَاحَةً و مُلُوحَةً: خوبصورت ہونا صفت۔
مَلِیح و مُلَاحٌ و مُلَّاحٌ۔ مَلَّحَ و أَمْلَحَ
المتكلِّمُ: عمدہ کلام کرنا۔ تَمَلَّحَ: کہا جاتا ہے:
فلانٌ یتظرّف و یتملّح: فلاں شخص زندہ دلی ظاہر
کرتا ہے اور بذلہ سنج بنتا ہے۔ اِسْتَمْلَحَ الشیءَ: کو
عمدہ پانا یا سمجھنا، تعجب سے کہا جاتا ہے: مَا أَمْلَحَهُ و مَا
أُمَیْلَحَهُ: وہ کتنا خوبصورت ہے، اچھا ہے۔ المُلَح:
عمدہ باتیں۔ المِلْح جمع مِلَح و مِلْحَة و مِلَاح و
امْلاح: خوبصورتی، علم، علماء۔ المُلْحَة: عظمت۔
مُلَح کا واحد، مزے دار اور عمدہ بات۔ المُلَحَة:
خوبصورت بات۔ المُلاح جمع مُلاحون: خوبصورت۔
المَلَاحة: خوبصورتی۔ رجُلٌ مُلاح جمع مُلّاحون:
ظریف، خوبصورت آدمی۔ المَلِیح م مَلِیحَة جمع
مِلَاح و امْلاح: خوبصورت، ظریف خوش مزاج۔
الأَمْلَح جمع مُلْح: اسم تفضیل۔ الأُمْلُوحة من
الكلام جمع أَمَالِیح: اچھا عمدہ کلام۔

۴۔اِمْتَلَحَ: جھوٹ سچ ملانا۔ اِمْلَاحَّ النخلَ: کی کچی کھجور
کا سرخ و زرد ہونا۔

۵۔المِلَاح: برقعہ، تھیلا۔ المَلْحَاء جمع مَلْحَاوات:
درخت جس کے پتے گر گئے ہوں۔

○ مَلَحَ ۔ و مَلُحَ ۔مُلُوحًا و مُلُوحَةً و مَلَاحَةً:
نمک، نمکین یا کھاری ہونا یا ہوجانا۔

مَلُح ۔مَلَاحَةً و مُلُوحَة: خوبصورت ہونا، خوبرو ہونا،
حسین ہونا، شکیل ہونا، عمدہ ہونا، نفیس ہونا۔ مَلَّحَ ہ:
میں نمک ڈالنا، پر نمک لگانا، نمک چھڑکنا، کو نمک لگا کر
خشک کرنا، کو نمک لگا کر محفوظ کرنا، کو نمک لگا کر سکھانا۔
أَمْلَحَ: نمک یا نمکین یا کھاری ہونا۔ اِسْتَمْلَحَ ہ: کو
خوبصورت، حسین عمدہ یا پرلطف یا ظرافت بھرا پانا۔
مِلْح (مذکر و مونث) جمع أَمْلاح و مِلَاح: نمک،
بارود (gun powder)، پھبتی، لطیفہ، حاضر جوابی،
ذہانت، ذہن، بذلہ سنجی، عقل، سمجھ، زندہ دلی۔ مِلْح
انكلیزی: کڑوا نمک، معدنی نمک (epsum
salt)۔ مِلْح البارُود: شورہ، قلمی شورہ
(saltpetre)، بارُود (gunpowder)۔ مِلْحُ
النشادر: نشادر کی گیس، امونیا گیس۔ امْلاح
مَعْدَنیة: معدنی نمک۔ مِلحی: نمک، نمکین کھاری،
شورہ دار۔ مِلْحة: معاہدہ، عہد و پیمان، پابندی، قول و
قرار۔ مُلْحَة جمع مُلَح: پرلطف کہانی، بے ربط قصہ،
پھبتی، لطیفہ۔ مَلّاح: ملاح، جہاز ران، ماہر جہاز
ران، مراکشی شہروں کا اقلیتی باشندہ۔ مَلاحَة:
خوبصورتی، حسن، جمال، دلکشی، خوش وضعی، مہربانی،
شفقت، دوستانہ سلوک، دل آویزی، نمکینی، کھاری
پن۔ مَلّاحة جمع مَلّاحات: کھاری چشمہ، نمک بنانے
کا گڑھا یا کارخانہ یا نمک بنانے کی جگہ، نمک کی کان،
نمک بنانے کا تہ خانہ۔ مِلاحَة: جہاز رانی، جہاز پر
سامان کی لدائی۔ مِلاحة تجاریة: بحری جہازوں
کے ذریعے سامان کی نقل و حمل۔ مِلاحَة جویة: ہوا
بازی۔ مِلاحة داخلیة: اندرون ملک جہاز رانی۔
مِلاحة نهریة: دریاؤں کے ذریعہ آمد و رفت۔
صالح للملاحة: جہاز رانی کے قابل۔ مِلاحِی:
جہاز رانی سے متعلق سمندری، بحری۔ مُلُوحة: نمکینی،
کھاری پن، نمک جیسا ذائقہ۔ مَلِیح جمع مِلاح و
أمْلاح: نمکین، کھاری، نمک ڈالا ہوا، خوبصورت،
حسین، جمیل، خوبرو، شکیل، عمدہ، خوشگوار، خوش اطوار،
مہربان، بذلہ سنج، پرلطف، ظرافت بھرا۔ أُمْلُوحة جمع
أَمَالِیح: مذاق، ہنسی، لطیفہ، قصہ، حکایت۔ مَمْلَحة
جمع مَمَالِح: نمک بنانے کا گڑھا، کارخانہ یا نمک
بنانے کی جگہ، کھاری چشمہ، نمک بنانے کا تہ خانہ۔
مَوَالِح (مالِحة کی جمع): ترش پھل، گری دار پھل،
مونگ پھلی، بادام وغیرہ جن میں نمک ملایا گیا ہو۔
مَمْلُوح: نمک ڈالا ہوا، نمکین، کھاری۔ مُمَلّح:
نمک ڈالا ہوا۔ مُسْتَمْلَح: ذہین تیز طبع روشن، چمکدار،
ہوشیار، دلچسپ۔

ملخ: ا۔مَلَخَ ۔مَلْخًا الشیءَ: ہاتھ یا دانت سے پکڑ کر
کھینچنا۔ تَمَلَّخَ الشیءَ: کو نکالنا۔ اِمتلخ الشیءَ:
کو اکھیڑنا، کھینچنا، اتارنا، نکالنا۔ ـــ یدهُ من القابض

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

علیه: پکڑنے والے سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا۔۔۔السیفَ: جلدی سے تلوار سونت لینا۔کہا جاتا ہے:مرّ بـرمح مـر کـوز فـامتـلخـهُ: وہ زمین میں گڑے ہوئے نیزے کے قریب سے گزرا تو اسے زمین سے باہر نکال لیا۔المَلِیخ. کمزور،ضعیف۔

۲۔مَلَخَ ۔مَلْخًا الفرسُ: گھوڑے کا کھیلیں کرنا۔۔۔فی الباطل: فضول کام میں مشغول ہونا۔۔۔مالَخَ ملاخًا و تـمـالـخـهُ: آپس میں کھیلنا، چاپلوسی اور خوشامد کرنا۔المَلّاخ: بڑا چاپلوس بڑا خوشامدی۔

۳۔مَلَخَ ۔مَلْخًا الطعامُ: کھانے کا خراب ہونا۔مَلُخَ ۔مَلَاخَةً الطعامُ: کھانے کا خراب ہونا۔تَـمَلَّخَ الشیءُ: چیز کا بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔الـمَـلِـیـخ: خراب کھانا وغیرہ، بے مزہ (چیز)۔مُـمْتَلَخُ العقل: پاگل، عقل سے محروم۔

۴۔مَلَخَ ۔مَلْخًا الرجلُ: تیز چلنا، بھاگ جانا۔عبدٌ مَلّاخ. بہت بھاگنے والا غلام۔

۵۔المُلُوخِیَّة (ن): ایک قسم کی نباتات۔

ج مَلَخَ ۔مَلْخًا ہ: کو باہر نکالنا، کھینچنا، کو پھاڑ لینا، (جوڑ) کو زور کا جھٹکا دینا، مروڑ دینا، جوڑ الگ کر دینا، اکھاڑنا، اتار دینا۔اِمْتَلَخَ ہ: کو باہر نکالنا، کھینچنا، کا عطر نکالنا۔مَلِیخ: بے لطف، بے مزہ، بے ذائقہ، پھیکا، بے لذت، روکھا پھیکا، بے نمک۔مُلُوخِیَّة: ایک جڑی بوٹی، اس کا گاڑھا شوربہ یا یخنی۔

ملد. مَلَدَ مَلْدًا الشیءَ: کو کھینچنا۔مَلِدَ ۔مَلَدًا الغصنُ: ٹہنی کا ہلنا، نرم ہونا۔مَلَّدَ الادیمَ: کھال (جلد) کو نرم کرنا......الريُّ الغصنَ: بارش یا آبپاشی کا ٹہنی کو نرم کرنا۔الـمـلَـدُ جمع أَمْلاد: جوانی، نرمی، نزاکت۔الـمَلَدان: ٹہنی کا ہلنا اور نرم ہونا۔الـمَلْد و الأَمْلَد و الأُمْلُد و الأُمْلُود و الإِمْلِيد و الأُمْلُدان و الأُمْلُدَانی: نرم و نازک انسان یا ٹہنی۔کہا جاتا ہے: شابٌّ أُمْلُود و شبانٌ أمالید: نرم و نازک نوجوان (واحد و جمع)۔الـمَـلْـداء جمع مُـلْـد: الأَمْـلَـد کا مؤنث۔کہا جاتا ہے: إمـرأة مَلْدَاء و أُمْلُود و أُمْلُودَة و أُمْلُدانِیَّة: نرم و نازک عورت۔

ج مَلِدَ ۔مَلَدًا: نرم و نازک ہونا (خصوصاً ٹہنی کا)۔أمَـالـیـد: نرم و نازک ٹہنیاں، شاخیں۔أمْـلَـد م مَلْداء: نرم و نازک، لچکدار۔

ملذ: ا۔مَلَذَ ۔مَلْذًا فلانًا: کو نیزہ مارنا۔۔۔الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔

۲۔مَلَذَ ۔مَلْذًا الرجلُ: جھوٹا ہونا، جھوٹ بولنا۔۔۔مَلْذًا و مَلَاذَةً الرجلَ: کو صرف اچھی باتوں سے خوش کرنا اور کر کے نہ دکھانا۔سے زبانی جمع خرچ کرنا۔مَلِذَ ۔ مَلَذاً الظلامُ: اندھیرا گھپ ہونا۔۔۔الرجُلُ: منافقانہ طرز والا ہونا۔الأَمْـلَـذ و الـمَلَذَان و المَلَذَانِیّ و الـمَلاذِنِیّ و الملاذ و الـمِلْـوَذ: منافق، جھوٹا آدمی۔

ملز: ا۔مَلَزَ ۔مَلْزًا: پیچھے رہنا۔اِمَّلَزَ عنه: سے پیچھے رہنا۔

۲۔مَلَزَ ۔مَلْزًا بالشیء: کو لے جانا۔مَلَّزَهُ عنه: کو سے چھڑانا۔۔۔الشیءُ عَنِّی: چیز کا مجھ سے جاتا رہنا۔أمْلَزَ و اِمْتَلَزَهُ: کو اچک لینا، چھین لینا، لیجانا۔تَمَلَّزَهُ: کو چھین لینا، اچک لینا، لیجانا۔۔۔منه: سے چھٹکارا پانا۔اِنْمَلَزَ و اِمَّلَزَ منه: سے بچ نکلنا، خلاصی پانا۔الـمَلِـزُ من الرجال: مضبوط، گٹھا ہوا آدمی۔المَلّاز: بہت اچکنے والا۔(ح): بھیڑیا۔

ملس: ا۔مَلَسَ ۔مَلْسًا الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑ کر نکالنا۔۔۔الرجُلَ بلسانه: سے چاپلوسی کرنا، کی خوشامد کرنا۔۔۔الإبلَ: اونٹوں کو تیز ہانکنا۔مَلِسَ ۔ وَمَلُسَ ۔مُلُوسَةً و مُلاسَةً: ملائم اور چکنا ہونا صفت۔أَمْلَس۔مَلَّسَهُ من الامر: کو کسی کام یا بات سے چھڑانا۔۔۔الشیءَ: کو ملائم اور چکنا کرنا۔۔۔الارضَ: زمین کو ہموار کرنا۔أَمْلَسَتِ الشاةُ: بکری کی اون کا جھڑ جانا۔تَـمَلَّسَ: نرم و چکنا ہونا۔۔۔من بین القوم: لوگوں میں سے نکل جانا۔۔۔من الشراب: نشے سے ہوش میں آنا۔۔۔من الامر: سے نکل جانا، بچ نکلنا، سے چھٹکارا پانا۔اِمْتَلَسَ الشیءَ: کو اچک لینا۔اُمْتُلِسَ بصرُهُ: نگاہ جاتی رہنا۔اِنْمَلَسَ و اِمَّلَسَ من الامر: معاملہ وغیرہ سے بچ نکلنا، خلاصی پانا۔اِمْلَاسَّ: نرم و چکنا ہونا۔۔۔من الامر: معاملہ سے خلاصی و رہائی پانا۔الـمَلَس جمع مُلُوس و أَمْلاس و جمع أمالیس: ہموار جگہ۔الـمَلَسَی: بہت تیز رفتار اونٹنی۔کہا جاتا ہے: بایَعَهُ الـمَلَسَی: اس نے اس سے ایسا معاہدہ کیا جس سے ذمہ داری کا کوئی تعلق نہیں۔الـمَلّاسَة و المِمْلَسَة: زمین برابر کرنے کی لکڑی، کھانچے دار سراون۔الأَمْلَس م مَلْسَاء: نرم، چکنا۔الـمَلْساء: آسانی سے نگلی جا سکنے والی شراب۔الألِفُ الـمَلْساء: نرم الف جیسے کتاب میں۔سنة مَلْساء جمع أمالِس و أمالیس: خشک سال۔الـمَلِیس: نرم، چکنا۔الإِمْلِیس و الإِمْلِیسَة جمع أمالیس و أمالس (شاذ): ریگستان، بے برگ گیاہ میدان۔

۲۔مَلَسَ ۔ ... الظلام: گھٹا ٹوپ اندھیرا ہونا۔مَلَسُ الظلام: بہت اندھیرا جو مغرب اور عشاء کے درمیان ہوتا ہے۔کہا جاتا ہے: جاء نی مَلَسَ الظلام: وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اندھیرے کے وقت میرے پاس آیا، نصب ظرفیت کی وجہ سے ہے۔الـمُلَیْسَاء: مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، نصف النہار۔

ج مَلِسَ ۔و مَلُسَ ۔مَلَاسَةً و مُلُوسَةً: ہموار ہونا، برابر ہونا، مسطح ہونا، چکنا اور صاف ہونا۔مَلَّسَ ہ: کو ہموار کرنا، برابر کرنا، مسطح کرنا، چکنا کرنا، صاف کرنا، کو پھسلنے والا بنانا۔۔۔علی: پر ہاتھ گزارنا، کو ہاتھ سے صاف کرنا، جھاڑنا، پر ہاتھ پھیرنا، کو تھپکنا، سہلانا، پچکارنا۔تَمَلَّس: ہموار ہو جانا، چکنا اور صاف ہو جانا، پھسلنا، سرکنا، کھسکنا، ٹٹولنا، آنکھ بچا کر نکل جانا، بچ نکلنا، فرار ہو جانا۔اِنْـمَلَسَ و اِمَّلَس: ہموار ہونا، پھسلنا، سرکنا، کھسکنا، بچ نکلنا، فرار ہو جانا۔مَـلَـس: باریک خارجی لباس، عورتوں کے لباسوں کے لئے ریشمی کپڑا۔مَلِس: ہموار، چکنا، صاف، نرم، گدگدا۔مَلَاسَة: روانی، ملائمت چکنا پن۔ہمواری۔أَمْلَس مونث مَلْسَاء جمع مُلْس: ہموار، چکنا، صاف، نرم، گدگدا۔

ملش: مَلَشَ ۔مَلْشًا الشیءَ: کو ہاتھ سے ٹٹول کر ڈھونڈنا۔۔۔الریشَ: پر اکھیڑنا، نوچنا، کھینچنا، توڑنا (سریانی عوامی زبان)۔الـمالُوش جمع مَوَالِیش (ح): نباتات کی جڑوں کو کاٹنے والا کیڑا (عوامی زبان کا لفظ)۔

ملص: مَلَصَ ۔مَلْصًا بسلحه: بیٹ کرنا، پاخانہ کرنا۔مَلِصَ ۔مَلَصًا الشیءُ من یده: چکناہٹ کی وجہ سے ہاتھ سے پھسل جانا۔کہا جاتا ہے: مَلِصَت السمكة من یدی: مچھلی میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل گئی۔۔۔الرجُلُ: بھاگ جانا۔أَمْلَصَت الحامِلُ: حاملہ عورت کا حمل گرانا صفت مُمْلِص جمع مَمَالِص۔۔۔الشیءَ: کو پھسلانا۔تَمَلَّصَ و اِنْـمَلَصَ و اِمَّلَّسَ منه: سے بچ نکلنا، چھوٹ جانا، خلاصی پانا۔۔۔الشیءُ من یدی: چیز کا ہاتھ سے پھسل جانا۔الـمَلْص: ننگا، عریاں۔الـمَلَص (مص): پھسلنا۔المَلِصُ من الحبال و نحوها: رسی وغیرہ جو پھسل جائے اور ہاتھ سے چھوٹ جائے۔سمكة مَلِصَة: ہاتھ سے پھسل کر نکل جانے والی مچھلی۔الـمَلِیص: پھسلنے اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز، اسقاط شدہ بچہ۔الأَمْلَص: تر و نرم۔رجل أَمْلَصُ الراس: گنجے سر والا۔الـمِمْلاص: وہ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عورت جس کو اسقاط کی عادت ہو۔المُمْلِص: اسقاط شدہ بچہ۔

ⓒ مَلِصَ -مَلَصًا: پھسلنا، سرکنا، کھسکنا، چپکے سے نکل جانا، فرار ہو جانا۔ــــــ من عن: سے چھٹکارا پانی، خلاصی پانا، سے آزاد ہونا۔مَلَّصَ من: سے آزاد ہونا، پہلوتہی کرنا، بچنا، سے جھکائی دیکر نکل جانا، بچنا، کوٹال جانا، پی جانا۔مَلِص: ہموار، چکنا، نرم، ملائم، پھسلنی، رپٹنی (رپٹنی سطح وغیرہ)۔مَلِيص: ہموار، نرم ملائم، چکنا، پھسلنی، رپٹنی (سطح وغیرہ)، اسقاط شدہ بچہ، پیدائشی مردہ بچہ۔تَمَلَّص: پھسلنا، فرار ہونا، فرار۔

ملط: ١-مَلَطَ -مَلْطًا الحائط: دیوار کو مٹی سے لیپنا۔ــــــ الشعرَ: بال مونڈنا۔ــــــ ت الحامل جنينها: حاملہ کا ادھورا بچہ گرانا۔ــــــ مَلُطَ -مُلُوطًا الغلامُ: لڑکے کا مخلوط النسل ہونا۔مَلِطَ -مَلَطًا و مُلْطَةً: بے بال کے جسم والا ہونا۔مَلَّطَ الحائطَ: دیوار کو مٹی سے لیپنا۔مَالَطَ مُمَالَطَةً ہٗ: سے خلط ملط ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کا ہم صحبت ہونا۔أَمْلَطَ ت الحامِلُ جنينها: ناتمام بچہ گرانا (حاملہ کا)۔ــــــ ريشُ السهمِ: تیر کے پروں کا گر جانا۔ــــــ الرجلُ: محتاج ہونا، غریب و مفلس ہونا۔تَمَلَّطَ الشيءُ: ملائم ہونا۔ــــــ السهمُ: تیر کا بے پر ہونا۔اِمْتَلَطَ الشيءَ: چیز کو اچک لینا، چھین لینا۔المِلْط جمع أَمْلاط و مُلُوط: برا آدمی، بد دیانت، بے ایمان شخص، گمنام نسب والا۔المِلاط جمع مُلُط: لپائی کا گارا۔الأَمْلَط مُلْط: بے بال جسم والا۔سهمٌ أَمْلَط: بے پر تیر۔المَلِيط: جس کے جسم پر بال نہ ہوں۔رحم مادر کا بچہ جس کے جسم پر بال نہ ہوں۔سهمٌ مَلِيط: بے پروں کا تیر۔المِمْلاط من النوق: بچہ گرانے کی عادی اونٹنی۔

٢-مَلَّطَ الشاعرُ: شاعر کا آدھا بیت پڑھنا اور دوسرے کا اسے پورا کرنا، ایک شاعر کا ایک مصرعہ پڑھنا اور دوسرے کا دوسرا مصرعہ ملا کر شعر پورا کرنا۔مَالَطَ مُمَالَطَةً: ایک شاعر کا ایک مصرعہ پڑھنا اور دوسرے کا دوسرا مصرعہ ملا کر شعر پورا کرنا۔

ⓒ مَلَطَ -مَلْطًا ہ: دیوار وغیرہ پر مٹی کا لیپ کرنا، دیوار پر گارے کا پلاسٹر کرنا، کو گارے یا مسالے سے جوڑنا: ــــــ ہ: (بال) مونڈنا۔مَلَّطَ ہ: دیوار وغیرہ کو مٹی سے لیپنا، دیوار پر گارے کا پلاستر کرنا، کو گارے یا مسالے سے جوڑنا۔مَلْط: مادرزاد ننگا، ننگ دھڑنگ۔مِلْط جمع أَمْلاط و مُلُوط: بے آبرو، ذلیل، بے شرم، بے عزت، موجب رسوائی، زبوں، شرمناک، بدمعاش، لچا، شہدا، غنڈہ، بدذات۔خِلْط مِلْط یا خَلْط مَلْط: گڈمڈ، خلط ملط، بے ترتیب، افراتفری میں، پراگندہ، الجھن میں۔مِلاطَ جمع مُلُط: گارا، چونے کا مسالہ۔مَلِيط و أَمْلَط جمع مُلْط: بے بال، گنجا۔مَالُطَة: مالٹا ایک ملک کا نام۔مَالِطِي: مالٹا کا، مالٹا کا باشندہ۔

ملع: ١-مَلَعَ -مَلْعًا -مَلْعًا الشاةَ: بکری کی کھال اتارنا۔عوام کہتے ہیں مَلَعَ الشيء: اس نے چیز کو پھاڑ ڈالا۔ــــــ الفصيلُ أُمَّهُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔أَمْلَعَ و انْمَلَعَ ت الناقةُ: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔اِمْتَلَعَ الشاةَ: بکری کی کھال اتارنا۔ــــــ الشيءَ: چیز کو اچک لینا، چھین لینا۔...... ت الناقةُ: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔المَلْع (مص): کہا جاتا ہے هُمْ عليه مَلْعٌ واحد: وہ سب اس کے خلاف متفق ہیں۔المَلاع: بنجر بیابان۔جملٌ مَلُوع م مَلُوع: تیز رفتار اونٹ۔عُقَابٌ مَلُوعٌ: جلد جھپٹنے والا عقاب۔المَلِيع: بنجر بیابان۔ــــــ جمع مُلُع: تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑا۔المَيْلَع: ادھر ادھر ہلنے والا، تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑا۔

٢-المَيْلَع: طویل لمبا، دراز۔

ملغ: مَالَغَ مُمَالَغَةً ہٗ بالكلام: سے ناشائستہ کلام کے ساتھ مذاق کرنا۔تَمَلَّغَ في كلامِه: گفتگو میں اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرنا۔تَمَالَغَ به: سے تمسخر کرنا، کا مذاق اڑانا، پر ہنسا، کی ہنسی اڑانا۔المِلْغ جمع أَمْلاغ و المالِغ جمع مُلاَّغ۔والأَمْلَغ م مَلْغاء جمع مُلْغ: احمق فحش کلامی کرنے والا۔المَلُوغة: بے وقوفی، فحش کلامی۔

ملق: ١-مَلَقَ -مَلْقًا الشيءَ: کو نرم کرنا، ملائم کرنا۔ــــــ الشيءَ: کو مٹانا۔ــــــ الثوبَ: کپڑے دھونا۔ــــــ الولدُ أُمَّهُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔مَلِقَ -مَلَقًا الخاتمُ في الاصبع: انگوٹھی کا انگلی میں ڈھیلی ہونا۔ــــــ ہٗ و مَلِقَ لهٗ و مالَقَهٗ: کی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا۔مَلَّقَ الارضَ او الحائطَ: زمین یا دیوار کو ہموار کرنا۔أَمْلَقَ: مال خرچ کر ڈالنا، مفلس ہو جانا۔ــــــ الدهرُ مالَه: زمانے کا مال کو ہاتھ سے نکال دینا، کنگال کرنا۔ــــــ الثوبَ: کپڑے دھونا۔ــــــ منه: کے ہاتھ سے نکل جانا۔تَمَلَّقَ تَمَلُّقًا و تِمْلاقًا الرجلَ و للرجل: کی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا۔ــــــ تِ المرأةُ العِلْكَ بفيها: عورت کا گوند کو چبانا۔اِمْتَلَقَ الشيءَ: چیز کو نکال دینا۔اِنْمَلَقَ: نرم اور چکنا ہونا۔ــــــ منه: کے ہاتھ سے نکل جانا۔ــــــ الخضابُ: خضاب کا نرم و چکنا ہونا اور جاتا رہنا۔اِسْتَمْلَقَ الولدُ امَّه: بچے کا ماں کا دودھ پینا۔اِمَّلَقَ: نرم اور چکنا ہونا۔ــــــ منه: ہاتھ سے نکل جانا۔المالَق: ہینگا، زمین ہموار کرنے کا آلہ۔المَلَق (مص): دوستی، بڑی مہربانی، دعاء، ہموار زمین۔المَلِق: کمزور۔ــــــ و المَلاَّق: بڑا خوشامدی، چاپلوس۔المَلَقَة: چکنا پتھر۔المِمْلاق: سخت غریب، بہت چاپلوس اور خوشامدی۔المِمْلَق و المِمْلَقَة: سہاگہ، زمین ہموار کرنے کا چوڑا پھٹا جسے بیل کھینچتے ہیں۔

٢-مَلَقَ -مَلْقًا الرجلُ: تیز چلنا۔المَلَق: دوڑ میں نفاست اور تیز رفتاری۔کہا جاتا ہے لهذا الفرس مَلَق: یہ گھوڑا دوڑ میں نفیس اور تیز ہے۔فرسٌ مَلِقٌ و مَلِقَة: گھوڑا جس کے دوڑنے پر اعتماد نہ کیا جا سکے، بڑا مہربان۔المَلِيق: تیز رفتار۔کہا جاتا ہے رجلٌ او فرس مَلِيق: تیز رفتار مرد یا گھوڑا۔

٣-مَلَقَ -مَلْقًا و مَلَّقَ ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

ⓒ مَلِقَ -مَلَقًا ہ: کی خوشامد کرنا۔مَلَّقَ ہٗ: کی خوشامد کرنا۔ــــــ ہ: کو ہموار کرنا، کی سطح ہموار کرنا۔مَالَقَ ہٗ: کی خوشامد کرنا۔أَمْلَقَ: غریب اور مفلس ہو جانا۔تَمَلَّقَ لِ / إلى /ہ: کی خوشامد کرنا۔مَلِق و مَلاَّق: خوشامدی، چاپلوس۔مَلَقَة جمع مَلَقَات و أَمْلاق: مصری میل، کوس، تقریباً ایک گھنٹہ چلنے میں طے ہونے والا فاصلہ۔مِمْلَقَة: سطح ہموار کرنے والا آلہ۔تَمْلِيق و تَمَلُّق: خوشامد، چاپلوسی۔

ملك: ١-مَلَكَ -مَلْكًا و مُلْكًا و مِلْكًا و مَلَكَةً و مَمْلَكَةً و مَمْلِكَةً و مَمْلُكَةً الشيءَ: کا مالک ہونا۔ــــــ على القوم: پر غالب ہونا۔ــــــ على فلانٍ أمرَهٗ: کے معاملہ پر غالب ہونا۔ــــــ نفسَهٗ: اپنے اوپر قابو رکھنا۔ــــــ المرأةَ: عورت سے نکاح کرنا۔ــــــ مَلْكًا العجينَ: آٹے کو اچھی طرح گوندھنا۔مَلَّكَ ہٗ الشيءَ: کو کسی چیز کا مالک بنانا۔ــــــ العجينَ: آٹے کو اچھی طرح گوندھنا۔ــــــ القومُ فلانًا عليهم: فلاں کو اپنا بادشاہ بنانا۔ــــــ ہٗ امرأةً: کا کسی عورت سے نکاح کرنا۔ــــــ فلانًا امرَهٗ: کو اس کے حال پر چھوڑ دینا۔مُلِّكَ ت المرأةُ امرَها: عورت کو طلاق کا اختیار دیا جانا۔أَمْلَكَ ہٗ الشيءَ: کو کا مالک بنانا۔ــــــ القومُ فلانًا عليهم: قوم کا کسی کو اپنا بادشاہ بنا لینا۔ــــــ فلانًا امرَهٗ: کو اس کے حال پر چھوڑنا۔ــــــ ہٗ المرأةَ: کا عورت سے نکاح کرا دینا۔تَمَلَّكَ الشيءَ: کا مالک ہونا۔ــــــ على القوم: قوم کا بادشاہ بن جانا۔تَمَالَكَ عن كذا: سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔کہا جاتا ہے ما تَمَالَكَ أَنْ فَعَل

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

و عن ان فَعَلَ ذلك: وہ اپنے آپ کو یہ کام کرنے سے نہ روک سکا ـ امْتَلَكَ الشیءَ: کا مالک ہونا۔ المَالِك (فا) جمع مُلَّك و مُلاَّك: بادشاہ ـ المَلْك ج مُلُوك و أملاك: بادشاہ ـ المُلْك جمع مَلاك و مُلُوك: ملکیت، عظمت و اقتدار، تھوڑا پانی ـ المِلْك (مص): کہا جاتا ہے ما له مِلْكٌ: وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے ـ هذا مُلْكُ يمينی: وہ میری ملکیت ہے اور میرے زیر تصرف ہے ـ ليس له مِلْكٌ: اس کے پاس پانی نہیں ہے ـ اعطانی من ملكِه: اس نے مجھے وہ چیز دی جو اس کے اختیار میں ہے ـ طَالَ ملكُهُ: اس کی غلامی طویل ہے ـ مَلْكُ الطريق: راستہ کا بیچ (امثلہ بالا میں ہر سہ حرکات جائز ہیں)۔ مَلْكُ الدابة: واحد مِلاك: چوپایوں کی ٹانگیں۔ ما له مُلْكٌ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ـ المَلَك: فرشتہ، ملکیت ـ ما له مَلَكٌ: وہ کسی چیز کا مالک نہیں ـ الماءُ مَلَكُ أمرٍ: پانی پر ہر بات کا انحصار ہے کیونکہ جب کسی قوم کے پاس پانی ہو تو وہ اپنے معاملات کے مالک ہوتی ہے ـ المَلِك جمع مُلُوك و اَمْلاك: اللہ تعالیٰ، بادشاہ، کسی امت، قبیلہ یا ملک کا صاحب اقتدار شخص ـ المَلاك: اقتدار ـ مَلاكُ الامر: سہارا، سرمایہ ـ بقا ـ القلب مَلاك الجسد: دل جسم کا سہارا ہے ـــــ جمع مَلائِكه و مَلائِك مَلْأَك کا مخفف، فرشتہ ـ المِلاك: مٹی ـــــ فی اصطلاح الحكومات: اپنے مناصب پر مستحکم لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے اُدْخِلَ فلان فی مِلاك الجيش او فی المِلاك الحكومی: فلاں کو فوج یا حکومت کے شعبہ میں شامل کیا گیا ـ مِلاكُ الامر: سہارا، سرمایہ، بقا ـ المَلْكَة والمُلْكَة: ملکیت ـ المَلَكَة: ملکیت (کہا جاتا ہے هو مَلَكَةُ يمينی: میں اس کا مالک ہوں) قابلیت، ملکہ، عادت، مہارت ـ مثلاً کہا جاتا ہے عند فلان مَلَكَةُ النقد: تنقید نگاری فلاں شخص کا ایک ملکہ ہے ـ مَلِكَةُ النحل: شہد کی مکھیوں کی ملکہ ـ المَلاكة والمِلاكة و المُلُوكة: ملکیت، حق ملکیت ـ المَلَكُوتُ: بادشاہی ـ سلطنت۔ المَلَكُوتُ السماوی: آسمان میں قدسیوں کی رہائش گاہ (سریانی لفظ) ـ المَلَكی م مَلَكِيَّة: شاہی ـ المَلَكِيُّون: شام کے مسیحیوں کا نام جو خلقیدونی مجلس کی قرار دادوں کے زیر نگین بنائے گئے ـ ان میں سے ایک شاخ ۱۸ صدی میں کیتھولک چرچ میں شامل ہو گئی دوسری شاخ ارتھوڈکس رومی تھے ـ المَلِيك جمع مُلَكاء: بادشاہ ـ الأُمْلُوك: اسم

جمع بمعنی مُلوک ہے ـ المَمْلَكَة و المَمْلُكه جمع مَمَالِك: شاہی شان شوشوکت، حکومت کے زیر نگیں ملک، بادشاہی ـ المَمْلُوك (مفع) جمع مَمَالِيك: غلام ـ مَمَالِيكُ مصر: یہ ترک چرکس اور مغل غلام تھے ـ ایوبیوں نے عسکری خدمت میں ان سے مدد لی۔ ان کے بعض زعماء نے حکومت اور اقتدار حاصل کر لیا اور مصر میں بحری اور برجی ممالیک کے خاندانوں کی بنیاد رکھی۔

٢ ـ المُلْك: پھلی دار پودوں کے بیج ـ ابُو مالِك: بھوک یا بڑھاپا ـ مالِكٌ الحزینُ: بگلا ـ المُلَيْكَة: صحیفہ ـ الأُمْلُوك (ح): ریگستان میں پایا جانے والا کیڑا جو چھپکلی سے مشابہ ہوتا ہے۔

مَلَكَ ـ مَلْكًا و مُلْكًا و مِلْكًا ہ: کو قبضہ میں لینا، کام کام سنبھالنا، کا مالک بننا، کو حاصل کرنا، کو اکتساب کرنا، پر قبضہ کرنا، کو زبردستی لے لینا، کو ہتھیانا، پر اپنا قبضہ جمانا، کا قبضہ لینا، کا مالک ہونا، کو رکھنا، پر غلبہ یا تسلط رکھنا، پر کنٹرول رکھنا، کو قابو میں رکھنا، کا آقا ہونا۔ ـــــ ہ/علی: پر حکومت کرنا، حکمرانی کرنا، پر اختیار سے کام لینا، پر صاحب اقتدار ہونا، کو قبضہ میں رکھنا، پر حکم چلانا ـــــ ہ: کا اہل ہونا ـــــ ہ: کے مساوی ہونا ـــــ ہ/أن: کچھ کرنے کے قابل ہونا ـ مَلَكَهُ الغيظُ: غصہ نے اسے گھیرے میں لے لیا، غصہ نے اس پر فتح پائی، غصہ نے اسے شکست دی ـ ملك عليه جميعَ مشاعِره: کے ہر خیال اور کام پر غلبہ یا تسلط رکھنا، کے ذہن پر سب سے اوپر ہونا ـ ملك عليه حِسَّهُ: کے احساسات پر قبضہ کر لینا ـ ملك عليه لُبَّهُ: کے دل کو پہلے ہی قبضہ میں لے لینا ـ ملك عليه نفسَهُ: کی روح کو پکڑ لینا، کی سوچ پر غلبہ رکھنا یا تسلط رکھنا، کو سخت متاثر کرنا، کو جوش میں لانا، بھڑکانا، ابھارانا، برانگیختہ کرنا، اشتعال دلانا ـ ملك على نفسه أمرَها: اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، غصہ قابو میں رکھنا ـ ملك العينين من البُكاء: آنسو روکے رکھنا ـ ملك نفسَهُ: اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ـ لم يملك ان: وہ سے باز نہ رہ سکا، وہ اس سے بچ نہیں سکا، اسے کرنا پڑا ـ ما ملكت (يملك) يمينهُ: اس کی دولت، اس کی جائداد، اس کی ملکیت، اس کا سب کچھ ـ مَلَّكَ و أَمْلَكَ ہ: کو مالک بنانا ـــــ ہ ہ: کو کے قبضہ میں دینا، کو کی ملکیت منتقل کرنا ـــــ ہ ہ: کو کچھ منتقل کرنا، کو کچھ تفویض کرنا، دینا یا سونپنا، کو کے حوالے کرنا ـــــ ہ علی: کو کا بادشاہ بنانا ... قبضہ لینا ...

قبضہ کرنا، کو زبردستی لے لینا، پر ہاتھ ڈالنا، کو تھامنا، پکڑنا، کا مالک ہونا، پر قابض ہونا ـــــ علی: کا بادشاہ ہونا، فرمانروا ہونا ـــــ: رائج ہو جانا، پھیلا ہوا ہو جانا، قائم، مستحکم، مضبوط، جما ہوا یا گڑا ہوا ہو جانا، عادت کا جڑ پکڑنا، مستحکم ہو جانا ـ تَمالك ہ: احساس پر قابو پانا ـــــ نفسه: اپنے آپ پر قابو پانا ـــــ: اپنے آپ پر قابو رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ـــــ عن: سے احتراز کرنا، سے باز رہنا ـ ما تَمالَكَ عن: وہ سے بچ نہیں سکا، وہ سے باز نہیں رہ سکا ـ اِمْتَلَكَ ہ: کا مالک ہونا، پاس ہونا، قبضہ میں ہونا، کو حاصل کرنا، جیتنا، کا مالک بننا ـ امْتَلَكَ نَواصِيَ الشیء: کا مالک ہونا، پر حکومت کرنا، پر حکمرانی کرنا ـ اِسْتَمْلَكَ ہ: کو اپنانا، کا مالک بن بیٹھنا، پر قابض یا متصرف ہونا، کا قبضہ لینا، پر قبضہ یا تسلط رکھنا، پر کنٹرول رکھنا، کا مالک ہونا، کو رکھنا، کو قابو میں رکھنا ـ مُلْك: حکومت، فرمانروائی، اقتدار اعلی، تسلط، غلبہ، حکمرانی، اثر، اقتدار، حاکمیت، بادشاہی، بادشاہت، شاہی اقتدار، ملوکیت، حق لگان داری، حق قبضہ، زمین برائے کاشت، حق قبضہ، ملکیت ـ مِلْك جمع أملاك: ملکیت، جائداد، سب کچھ، سامان و مال منقولہ، دولت، زمینداری، ریاست تعلقہ، زرعی جائداد، غیر منقولہ جائداد جمع املاک: نو آبادیات، زمینیں، زمینی جائداد، زمینداریاں، تعلقے۔ أَمْلاك أَمِيرِيَة یا املاك الحكومة: حکومت کی زمینیں ـ مِلك ثابت: زرعی جائداد، حقیقی جائداد، غیر منقولہ جائداد ـ ملك منقول: ذاتی جائداد منقولہ جائداد، ذاتی ملکیت، منقولہ اسباب ـ لملاك مَبْنِيَة: ترقی یافتہ قطعات، غیر منقولہ جائداد کی ترقی یافتہ حالت ـ صاحب الأَمْلاك یا ذو الاملاك: مالک زمین ـ ملك اميری: حکومت کی جائداد ـ ملك مُطْلَق: عام یا عمومی جائداد ـ ملك شائِع: مشترکہ جائداد، مشترکہ ملکیت، مشترکہ لگان داری ـ مَلِك جمع مُلُوك و أملاك: بادشاہ، فرمانروا، شہنشاہ ـ مَلِكة جمع مَلِكَات: ملکہ ـ مَلِكَةُ الجمال: ملکہ حسن۔ مَلَك (برائے ملأك): فرشتہ ـ ملك حارس: محافظ فرشتہ ـ مُلْكِي: قبضہ سے متعلق، مالکانہ، حکومت کا غیر فوجی اہلکار ملکی ـ بَدْلَة ملكِية: سول کپڑے۔ مُوَظَّف ملكي: سول سرونٹ ـ مَلَكي: شاہی، شاہانہ، حسین اور معصوم ـ مَلَكية: بادشاہی، ملوکیت، بادشاہت، شاہی اقتدار ـ مِلْكِيَة جمع مِلْكِيات: جائداد، ملکیت ـ الملكية الكُبْرىٰ: وسیع و عریض زرعی جائداد ـ نَزْعُ الملكية: ملکیت سے بیدخلی،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بے دخلی۔ مَلَکَۃ جمع مَلَکات: کردار کی خصوصیت یا طرۂ امتیاز، قدرتی افتادِ طبع، شوق، میلان، مناسبت، رجحان، رغبت، ملکہ، قابلیت، صلاحیت، استعداد، طباعی، جوہر، ذہانت، مہارت، ہنر۔ مَلَکُوت: قلمرو، بادشاہی، سلطنت، بادشاہت، شاہی اقتدار، حاکمیت، اقتدار اعلیٰ۔ مَلَکُوتُ السَّمٰوات: آسمانی بادشاہت۔ مَلَکُوتی: آسمانی، خدائی، الٰہی۔ مِلاک و مَلاک: بنیاد، لازمی بنیادی شرط۔ مِلاک: منگنی، نسبت، منگنی کا تحفہ جو منگیتر اپنی مستقبل کی دلہن کو دیتا ہے۔ مَلَکِی: شاہی۔ مَلَکِیَّۃ: شاہی حکومت، ملوکیت پسندی، بادشاہی، بادشاہت، شاہی اقتدار، ملوکیت پسندی کا رجحان۔ مَلّاک جمع مَلّاکون: مالک، زمین کا مالک، زرعی زمین والا، مالک یا مزارع، زرعی زمین کا مالک۔ کِبارُ المَلّاکین: زمینوں کے بڑے بڑے مالک۔ مِلْکِی: نجی، پرائیویٹ۔ مَلِیک جمع مُلَکاء: شاہ، مالک۔ مَلِیکَۃ: ملکہ، رانی۔ مَمْلَکَۃ جمع مَمالِك: بادشاہت، شہنشاہی، سلطنت، قلمرو، ریاست، ملک، شاہی اختیار، حاکمیت، اقتدار اعلیٰ۔ تَمْلِیك: انتقال ملکیت، ملکیت کی منتقلی، انتقال جائداد۔ تَمَلُّك: قبضہ لینا، قبضہ، ضبطی، قرقی، حق قبضہ، لگان داری، پٹہ، اجارہ، تسلط، غلبہ، کنٹرول، سرداری، حاکمی۔ تَمالُك: ضبطِ نفس۔ اِمْتِلاك: قبضہ لینا، قبضہ، ضبطی، حق قبضہ، لگان داری، پٹہ، اجارہ، غلبہ، تسلط، کنٹرول، سرداری، حاکمی۔ اِمْتِلاكُ النَّفْس: ضبطِ نفس (self control)۔ اِسْتِمْلاك جمع اِسْتِمْلاکات: تحصیل، حصول، اکتساب، دستیابی، تصرف، قبضہ، ضبطی۔ مالِك جمع مُلّاك و مُلّك: حاکم، مالک، قابض، رکھنے والا۔ مالِكُ الحَزِین: بگلا۔ مالِکِی: فقہ امام مالک کا پیرو، مالکی — المالِکِیّۃ: مالکی مدرسہ فکر۔ مَمْلُوك لِ: کا ملکیتی، کے قبضہ میں، سے متعلق۔ جمع مَمالِیك: سفید فام غلام۔ مَمْلُوك — غَیرُ مَمْلُوك: انفرادی قبضہ کے ناقابل۔ مُمَلِّك: منتقل کرنے والا۔ مُمْتَلَك: ملکیتی، زیر قبضہ جمع مُمْتَلَکات: جائداد، زمینی جائداد، جاگیریں، املاک، اشیاء مقبوضہ، مال و دولت، مال و متاع، محکومی علاقے یا ملک، نوآبادیاں۔ مُمْتَلَکات أمیریۃ: حکومت کی جائداد۔ المُمْتَلَکات المُتَقِلّۃ: جاگیریں۔

ملن: المَلَنْخُولِیا: مالیخولیا، خفقان، وحشت، سودا (melancholia)۔

ملو: ۱۔ مَلا یَمْلُو مَلْوًا البعیرُ: تیز چلنا، دوڑنا۔ مَلّی ہٗ اللّٰہُ حَبیبَہٗ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو اس کی عمر دراز کرنا اور اس سے مستفید کرنا ـــہ اللّٰہُ حَبیبَہٗ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو اس کے محبوب سے تمتع کو طول دینا، جو نیا لباس پہنے اسے کہتے ہیں: ابلیتَ جدیدا و تملیت حبیبا: یہ لباس تمہارے ساتھ رہے اور تم محبوب سے متمتع ہوتے رہو۔ مُلِّیَ و تَمَلّی عمرَہٗ: کی عمر دراز ہونا اور اس سے متمتع ہونا۔ ـــ حبیبَہٗ: محبوب سے عرصہ تک فائدہ اٹھانا۔ اَمْلٰی اِمْلاءً اللّٰہُ فُلانًا عُمْرَہٗ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی عمر دراز کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانے دینا۔ ـــ العیرَ و للبعیر: اونٹ کے پاؤں کے بندھن کو ڈھیلا کرنا۔ ـــ اللّٰہُ الظالمَ و لَہٗ: اللہ تعالیٰ کا ظالم کو مہلت دینا۔ ـــ لَہٗ فی غَیِّہٖ: کی گمراہی کے زمانہ کو دراز کرنا۔ ـــ علیہ الزمنُ: کیلئے زمانہ کا لمبا ہونا۔ المَلا جمع اَمْلاء: صحراء، وسیع زمین، زمانۂ دراز۔ المَلاۃ جمع مَلا: سنگریزوں کا بیابان۔ المَلاوَۃ والمَلْوَۃ (بتثلیث المیم) عرصہ۔ المَلَوان واحد مَلا: رات دن۔ المَلِیّ: زندگی کی مدت، زمانہ دراز۔ کہا جاتا ہے: انتظرتہ ملیًّا: میں نے اس کا بہت عرصہ انتظار کیا۔ مَرَّ مَلِیٌّ من اللیل: رات کے شروع سے تہائی رات گزری۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی رات کا ایک ٹکڑا ہے۔ الإِمْلاء (مص) جمع اَمالٍ و اَمالِیّ: مہلت دینا، تاخیر کرنا۔

۲۔ اَمْلٰی اِمْلاءً علیہ الکتابَ: سے کچھ لکھوانا۔ اِسْتَمْلٰی ہُ الکتابَ: سے لکھوانے کی درخواست کرنا۔ الإِمْلاء جمع اَمالٍ و اَمالِیّ: املا کئے ہوئے اقوال۔ الأَمالِیّ: املا کئے ہوئے اقوال اور خلاصے۔ یہ اِملاء کی جمع ہے جو اَمْلَی الکتاب کا مصدر ہے۔

۳۔ المَلاء جمع اَمْلاء: گرم راکھ۔

مَلّٰی ہٗ: کو سے عرصہ تک لطف اندوز کرنا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے)۔ أملی علی ہٗ: کو کچھ املا کرانا، سے کچھ لکھوانا۔ تَمَلّی ہٗ/ب/من: سے لطف اندوز ہونا۔ اِسْتَمْلٰی ہٗ: املا سے کچھ لینا۔ مَلا جمع اَمْلاء: کھلی زمین کا قطعہ۔ کھلا علاقہ یا ملک۔ لق و دق صحراء، سرد صحراء، ریگستان، بیابان۔ المَلَوان: دن اور رات۔ مَلْوَۃ: ایک خشک پیمانہ۔ مَلِیّ: نسبتاً لمبا عرصہ۔ مَلِیًّا: لمبے عرصہ تک۔ إِملاء: لکھوانا، املا کرنا۔ (ٹیلیفون پیغام کی) ترسیل۔ مِلایَۃ جمع مِلایات (مُلاءۃ): چادر۔ مَلِیَۃ جمع مَلایا: بدو عورتوں کا لباس۔ مِلْیار جمع مِلیارات: ایک ہزار ملین۔ مِلیجرام: ملی گرام۔ جمع مِلیجرامات۔ مِلیم جمع مِلّیمات و مَلالِیم: مصر میں سب سے چھوٹی نظام زر کی وحدت۔ جو 1/1000 پونڈ کے برابر ہے۔ مِلّیمتر جمع مِلّیمترات: ملی میٹر (millimeter)۔ مَلْیُون جمع مَلْیُونات و مَلایین: ملین (یعنی دس لاکھ)۔ اصحاب المَلایین: لکھ پتی (لوگ)۔ مم: ملی میٹر کا اختصار۔ مِمّا: مِمّ کی مختصر شکل: مِمَّن: (مِن مَن)۔

ملی: المِلیار (ع ح): ایک ہزار ملین (فرانس)۔ الملیُون جمع مَلایین (ع ح): ایک ہزار ہزار یعنی دس لاکھ۔

مم: مِمَّ: (من و ما استفہامیہ) کس سے؟

ممث: المَمُّوث (ح): گرانڈیل ہاتھی۔ جو برفانی دور میں یورپ میں موجود تھا۔ اس کے بعد سائبیریا میں زندہ رہا۔ جہاں اس کی لاش برف میں محفوظ پائی گئی۔ قبل از تاریخ کے انسان نے اسے دیکھا تھا اور غاروں کی دیواروں پر اس کے پہلو کی تصویر بنائی تھی۔

من: ۱۔ مِن۔ حروف جارہ میں سے ہے۔ مندرجہ ذیل معانی میں مستعمل ہے۔

۱۔ ابتداء الغایۃ: جیسے مرض من یوم الجمعۃ وہ جمعہ کے دن سے بیمار ہوا۔ سار من بیروت: وہ بیروت سے چلا۔

۲۔ تبعیض: جیسے مِنہم من احسن و منہم من اساء: ان میں سے بعض نے اچھے کام کئے اور بعض نے برے۔

۳۔ تعلیل: جیسے مِمّا خطیئاتہم اُغرقوا: وہ بوجہ اپنے قصوروں کے غرق کئے گئے۔

۴۔ بدل: جیسے: اترضون بالحیاۃ الدنیا من الأخرۃ: کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے ہو۔

۵۔ باء کے مترادف: جیسے ینظرون من طرف خفی: وہ پوشیدہ نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

۶۔ بمعنی فصل: جیسے: واللّٰہ یعلم المفسد من المصلح: اللہ تعالیٰ مفسد اور مصلح کے درمیان تمیز کرتا ہے۔

۷۔ زائد جیسے: ماجاء نی من رجلٍ۔ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا۔ اس کی تین شرطیں ہیں۔ پہلی: اس سے پہلے نفی آئے یا نہی یا استفہام دوسری مجرور نکرہ ہو۔ تیسری: مجرور فاعل، مفعول بہ یا مبتداء ہو۔ ان کے اور بھی بہت سے معانی ہیں۔ جو قرآن سے معلوم ہوتے ہیں۔

۲۔ مَن: اسم شرط مضارع کو جزم دیتا ہے جیسے من یَعْمَلُ خیراً یُجْزَ بہ: جو نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

۲۔ بطور اسم استفہام جیسے: مَنْ أتی؟ کون آیا؟

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

٣۔ بطور اسم موصول مشترک۔ اکثر ذوی العقول کے لئے مستعمل ہے جیسے: یسجد للہ من فی السمٰوات و من فی الارض: جو بھی آسمانوں اور زمین ہے اللہ کے آگے ساجد ہے۔

٤۔ بطور نکرہ موصوفہ: جیسے مررت بمن معجب لك: میں ایسے (مرد) کے پاس سے گزرا جو تجھے پسند ہے۔

من: مَنَّ ـ مَنًّا و مِنِّينَى عليه بكذا: سے کی بھلائی کرنا، پر انعام کرنا ـ مَنًّا و مِنَّةً عليه بما صنع: پر احسان جتانا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا ـ مَانَّ مُمَانَّةً: کسی کی حاجت روائی میں آنا جانا ـ تَمَنَّنَ فلانٌ فلانا و تَمَنَّنَ عليه: پر احسان جتا کر اس کو تکلیف پہنچانا۔ اِمْتَنَّ اِمْتِنَانًا عليه بما صنع: پر احسان جتانا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا ـ عليه بكذا: سے کی بھلائی کرنا۔ ـ فلانا: پر مقدور بھر احسان کرنا ـ اِسْتَمَنَّ هٗ: سے احسان طلب کرنا ـ المَنّ (مص): احسان، انعام۔ ایک قسم کا میٹھا گوند ـ مَنُّ بنی اسرائیل: وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنی اسرائیل کے لئے غذا بنا کر اتارا تھا ـ المِنَّة (مص) جمع مِنَن: احسان۔ کہا جاتا ہے لہ علیَّ منةٌ او مِنَن: اس کا مجھ پر احسان ہے یا احسانات ہیں۔ ملامت آمیز احسانات ـ المِنَّةُ تهدم الصنيعة: احسان جتانا احسان کو منہدم کر دیتا ہے۔ المُنَّة جمع مُنَن: قوت، طاقت، کمزوری (ضد) ـ المَنَّان م مَنَّانة: بہت احسان کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، احسان جتانے والا ـ المَنُون و المَنُونة م مَنُون: بہت احسان جتانے والا ـ المَنِين جمع مُنُن و اَمِنَّة: طاقت ور، کمزور (ضد) ـ المَمْنُون (مفع): طاقت ور، کمزور (ضد)، مقدور بھر (کوشش وغیرہ)۔ کہا جاتا ہے بلغتُ مَمْنُونَهٗ: میں اس کی مقدور بھر تعریف کو پہنچا۔ عام لوگ کہتے ہیں انا ممنون لك: میں آپ کا احسان مند ہوں۔ میں آپ کا ممنون ہوں۔

٣۔ مَنَّ ـ مَنًّا الرجلَ: کو کمزور کرنا ـ الحبلَ: رسی کو کاٹنا ـ الشيءُ: کم ہونا ـ الناقةَ: سفر سے اونٹنی کو لاغر کرنا ـ مَنَّنَ تَمْنِينًا الناقةَ و بها: اونٹنی کو سفر سے لاغر کرنا ـ امَنَّ و تَمَنَّنَ الرجلَ: کو کمزور کرنا۔ المُنَّة جمع مُنَن: کمزوری، طاقت (ضد) ـ المَنُون: موت (مونث ہے۔ کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ذهبت بهم المَنُونُ: موت انہیں لے گئی۔) زمانہ ـ ريبُ المَنُون: حوادث و تکالیف زمانہ ـ المَنِين جمع مُنُن و اَمِنَّة: کمزور، طاقت ور، گرد و غبار، خفیف یا ہلکا گرد و غبار ـ المَمْنُون (مفع): کٹا ہوا، کمزور، طاقت ور (ضد)۔

٣۔ المَنّ جمع اَمْنَان: پیمانہ یا وزن شرعاً ١٨٠ مثقال کے برابر۔ اور عملاً ٢٨٠ مثقال کے برابر ـ المَنَنَة (ح): مکڑی (ح) مادہ بھی ـ المَنُونَة (ح): مکڑی۔

ت مَنَّ ـ مَنًّا علي: پر مہربان ہونا، مشفق ہونا، شفیق ہونا، رحیم و کریم ہونا، فیض رساں ہونا، احسان کرنا، کرم فرمائی کرنا، مہربانی کرنا، کو فائدے پہنچانا، کو کچھ انعام میں دینا ـ علی ب: کو کی خوش نصیبی عطا کرنا یا کو کے دل میں ڈالنا، فیضان کرنا (اللہ تعالیٰ کا) ـ امَنَّ هٗ: کو تھکانا، کمزور کرنا ـ مَنَّنَ هٗ: کو تھکانا، کمزور کرنا۔ اِمْتَنَّ علي: پر مہربان ہونا، مشفق ہونا، احسان کرنا، کرم فرمائی کرنا، مہربانی کرنا، کو فائدے پہنچانا، کو کچھ انعام میں دینا ـ المَنّ: مہربان عطیہ، دان، بخشش، مہربانی، احسان، فائدہ، خدا کی رحمت، تحفہ، برکت عطیہ، انعام و اکرام ـ المَنّ جمع مَنَان: ٢ رطل کا وزن۔ بمنه تعالٰی: اللہ کے لطف و کرم سے ـ مِنَّة: لطف و کرم، نوازش، مہربانی، کرم، خیر خواہی، خیر اندیشی، خیر سگالی، دوستی، دوستانہ سلوک، دل آویزی، رحیمی کریمی، بہی خواہی، فیض رسانی، کرم فرمائی، مہربانی، شفقت، الطاف اعانت، حمایت، التفات احسان، مہربانی کا کام، فائدے کا کام، تحفہ، عطیہ ـ مُنَّة جمع مُنَن: طاقت، قوت، جان، سکت، قوت برداشت شدید المُنَّة: طاقت ور، ہٹا کٹا، زور آور ـ مَنَّان: مہربان، شفیق، مشفق، کریم، رحیم، دانا، سخی فیاض، دریا دل، کشادہ دل ـ المَنَّان: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ـ مَنُون: موت ـ مَمْنُون: کمزور مشکور ممنون، احسان مند ـ ل: کا شکر گزار، کا احسان مند، کا ممنون ـ مَمْنُونِية: احسان مندی، ممنونیت، شکر گزاری ـ مُمْتَنّ ل: کا شکر گزار، کا بہت احسان مند۔

منا: امَنَأَ ـ مَنْأً الجلدَ: چمڑا رنگنا ـ المَنِيئة: پہلی بار رنگا جانے والا چمڑا۔ رنگنے کی جگہ ـ المَمْنَأَة: کالی زمین۔

٢۔ مَنَأَ ـ مَنْأً فلانًا: کی اپنے جیسے کام کرنے پر موافقت کرنا۔

منج: المانجا و المانغا (ن): دیکھو الأنبج۔

المانجرو (ن): دوشاخہ درختوں کی ایک قسم جو استوائی ملکوں کے ساحلی جنگلوں میں اگتے ہیں۔

المَنْجَنِيق، المَنْجَلِيق جمع ... مَنْجَنِيقات: گزرے زمانوں میں قلعہ کی دیواروں پر پتھر پھینکنے کی مشین (یونانی لفظ)۔

ت منتول: ست پودینہ (menthol)

مُنْجَنِيق مونث جمع مَنْجَنِيقات و مَجانِيق: مُنْجَنِيق (ballista)، گوپھن (catacpult)۔

ت مَنْجُو: آم۔

منح: مَنَحَ ـ مَنْحًا هُ الناقةَ و كل ذات لبن: کو اونٹنی اور ہر دودھ والا جانور فائدہ اٹھانے کیلئے دینا۔ صفت مفعولی المِنْحَة و المَنِيحَة جمع مِنَح و مَنَائِح۔ ـ هُ الشيءَ: کو کوئی چیز دینا، عطا کرنا ـ مَانَحَ مِنَاحًا و مُمَانَحَةً هٗ: کو لگاتار عطیہ دینا ـ ت العينُ: آنکھ کا لگاتار آنسو بہانا ـ ت الناقةُ: ایک اونٹنی کا جاڑے میں دودھ اس وقت دینا جب کہ اور اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہو ـ اَمْنَحَت الناقةُ: اونٹنی کا جننے کے قریب پہنچنا۔ صفت مُمْنِح ـ تَمَنَّحَ المالَ: مال کو دوسرے کو کھلانا ـ اِمْتَنَحَ الرجلُ: بخشش لینا۔ کہا جاتا ہے اُمْتُنِحَ مالاً: وہ مال دیا گیا۔ ـ المَنِيحَ: جوئے کا تیر جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ادھار لینا ـ اِسْتَمْنَحَ هٗ: سے بخشش طلب کرنا۔ المِنْحَة جمع مِنَح: عطیہ بخشش ـ المَنَّاح: بہت دینے والا ـ المَنُوح: اونٹنی جو سردیوں میں دودھ دے جب کہ دوسری اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہو۔ المَنِيح: جوئے کا وہ تیر جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ المُمَانِح: جاڑے میں دودھ دینے والی اونٹنی جب کہ دوسری اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہو ـ مطر مُمَانِح: نہ رکنے والی بارش ـ ريح مُمَانِح: بادل بردار ہوا۔

ت مَنَحَ ـ مَنْحًا هٗ: کو کچھ دینا، عطا کرنا، کو کچھ مرحمت کرنا ـ مَانَحَ هٗ: پر نوازش کرنا، مہربانی کرنا ـ مَنْح: عطا کرنا، دینا، عطیہ دینا، عطیہ، دان، بخشش، نوازش، انعام دینا ـ مِنْحَة جمع مِنَح: مہربانی کرم فرمائی، مراعات، تحفہ، عطیہ، مہربانی، فائدہ، خیرات، معاوضہ، عوض، بدلا، اجرت، وظیفہ، ہرجانہ، وظیفہ (جو ذہین طلبہ کو دیا جاتا ہے)، گزارہ الاؤنس ـ مِنْحَةُ الاقامة: سکونتی الاؤنس ـ منحة جامعية: علمی وظیفہ (academic scholarship) ـ منحة السكنى: رہائشی الاؤنس، کرایہ الاؤنس ـ مَانِح: دینے والا، ہبہ کرنے والا، عطا کنندہ، چندہ دینے والا، عطا کرنے والا۔

مند: المَنْدَرِين (ن): ایک قسم کا درخت جس کا پھل مزیدار ہوتا ہے۔ سنترہ کی قسم کا۔

مَنْدِيل و مِنْدِيل جمع مَنَادِيل: عورتوں کا سر پر باندھنے کا رومال، رومال۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

منذ ومُذْ: میم کبھی مسکور آتی ہے۔حرف جر ہیں۔ اگر زمانہ ماضی ہوتو من کا معنی دیتے ہیں جیسے:ما رأیتہٗ منذ یوم الاحد: میں نے اس کو اتوار سے نہیں دیکھا۔اگر حال کا زمانہ ہوتو فی کے معنی میں آتے ہیں۔ جیسے:ما رأیتہ منذ شہرنا: میں نے اس کو ماہ رواں میں دیکھا ہے۔اگر معنی معدود ہوتو من وإلی کے معنی میں آتے ہیں جیسے:ما رأیتہٗ منذ ثلاثۃ أیام: میں نے اسے تین دن سے یا تین دن تک نہیں دیکھا۔ان کے بعد اسم مرفوع آتا ہے: جیسے ما رأیتہ منذ یومان: میں نے اسے دو دنوں سے نہیں دیکھا۔اس صورت میں گویا کہا گیا ہے:منذ کان یومان ان کے بعد جملہ فعلیہ یا اسمیہ آتا ہے جیسے منذ زلتُ ابغی المالَ منذ انا یافع: جب سے میں جوان ہوا ہوں مال کی تلاش میں ہوں۔تو اس وقت یہ ظرف ہوتے ہیں اور جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔منذ مُنْذ کا مخفف ہے۔

منذ شہر: گذشتہ ایک ماہ سے۔منذُ ایام: چند روز قبل، پچھلے چند دنوں سے۔منذ عہد قریب: حال ہی میں۔منذ الآن: اب سے، آج سے، آج کے بعد۔منذ الیوم: آج کے بعد، آج سے۔منذ کنت طفلاً صغیرا: اس وقت سے جب میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔

بحر المَنْش: رود بار انگلستان۔مَنْشُوبِیَۃ: اڈا، رہائشی علاقہ۔منشوری: منچوری۔مَنْصُون: موسمی ہوائیں (monsoon)۔منطرٌ: نیچے گرانا۔مَنْطَقَ ہ ب: کو سے باندھنا۔تمنطق ب: اپنے آپ کو سے باندھنا، اپنے آپ پر پٹیاں باندھنا، اپنے جسم کے گرد کوئی چیز باندھنا۔منطرفلۃ: سلیپر (slipper)۔

منز: المنیزیوم (ك): میگنیشیم (magnesium)۔

منع: مَنَعَ مَنْعًا ہ الشیءَ و منہ و عنہ: کو سے محروم کرنا، روک دینا۔ــ ہُ القاضی عن المیراث: کو قاضی کا میراث سے روک دینا۔ــ ہُ عن الدعوی: کو دعوی کرنے سے باز رکھنا۔ــ جارَہٗ: اپنے پڑوسی کی حمایت کرنا اور اسے بچانا۔مَنُعَ مَنَاعَۃً و مَنَاعًا: قوی ہونا، مضبوط ہونا۔ــ الحصنُ: قلعہ تک پہنچانا مشکل ہونا۔ــ الشیءُ: دشوار ہونا صفت مَنِیع۔مَنَعَ ہ الشیءَ و منہ و عنہ: کو سے محروم کرنا، کو سے روکنا۔ــ ہُ القاضی عن المیراث: کو قاضی کا میراث سے روک دینا۔ــ ہُ عن الدعوی: کو دعوی سے روکنا۔مَانَعَ ہُ: کی حمایت کرنا۔ــ ہُ الشیءَ: کو سے روکنا۔تَمَنَّعَ عن الشیءِ: سے باز رہنا، رکنا۔ــ بقومہ: قوم کی حمایت میں آنا، قوم سے قوت پکڑنا۔تَمَانَعَ: ایک دوسرے کو روکنا۔ــ عن انفسہما: ایک دوسرے کی حمایت کرنا۔ امتنع عن الشیءِ: سے رکنا۔ــ ابقومہ: قوم کی حمایت میں آنا، قوم سے قوت پکڑنا۔ــ الشیءُ: مشکل الحصول ہونا۔ناممکن الحصول ہونا۔المانِع (فا) جمع مانِعون و مَنَعَۃ: کنجوس، بخیل۔ــ جمع مَوَانِع: روک، روکنے والا۔المنع جمع مُنُوع (ح): کیکڑا۔رجلٌ مَنِعٌ: اپنے نفس کو روکنے والا۔المَنْعَۃ و المِنعَۃ: بدی سے روکنے والی قوت۔المَنَعَۃ جمع مَنَعَات: شوکت، قوت۔کہا جاتا ہے:لہم مَنَعَاتٌ: وہ مضبوط قلعوں والے ہیں جو دشمن کے لئے ناقابل فتح ہیں۔مَنَاعِ: اسم فعل بمعنی اِمنَعْ: روک دے۔المَنَاعَۃ (طب): جسم کی وہ قوت جو اس کو امراض سے محفوظ رکھے۔المَنَّاع: بہت زیادہ منع کرنے والا۔کنجوس۔بخیل۔المَنُوع: بہت زیادہ روکنے والا۔المُمْتَنِع: امتناع کے معنی میں اسم۔المنیع م منیعَۃ: ناقابل تسخیر۔حصن منیع: ناقابل تسخیر قلعہ، قلعہ جس تک رسائی مشکل ہو۔

منع مَنَعَ مَنْعًا ہ: کو داخل ہونے یا گزرنے سے روکنا، دور رکھنا۔...... ہ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو نہ ہونے دینا۔...... ہ عن/من: کو سے روکنا، باز رکھنا۔ــ ہ ہ: کا تک راستہ، یا رسائی روکنا۔ــ ہ ہ/ عن/ من: کو سے دور رکھنا۔ــ ہ ہ عن/من: کو سے محروم کرنا؛ کو سے منع کرنا، پر کی قدغن لگانا، پر کی مخالفت کرنا، کو سے محروم کرنا، کو سے روکنا۔...... أن: قبول کرنے سے انکار کرنا کہ، کو ناممکن قرار دینا۔...... ہ ہ/ ہ عن: کچھ نہ دینا، کو سے روک لینا، کو سے دور رکھنا، ہٹانا، پھیرنا، روکنا، کو سے محفوظ رکھنا، بچانا۔...... ہ/ ہ عن: کی سے حفاظت کرنا، کا کے خلاف دفاع کرنا۔مَنُعَ مَنَاعًا و مَنَاعَۃً: نہایت مضبوط ہونا، مستحکم ہونا، ناقابل رسائی ہونا، ناقابل تسخیر ہونا، ناقابل فتح ہونا، ناقابل شکست ہونا۔مَنَّعَ ہ: کو مستحکم کرنا، مضبوط کرنا، کی قلعہ بندی کرنا، کے استحکامات کرنا، کو ناقابل رسائی بنانا۔مَانَعَ ہ: کی مزاحمت کرنا، کا دفعیہ کرنا، کے خلاف کام کرنا، کے خلاف بغاوت کرنا، کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا۔ــ فی: کو طاقت سے روکنا، کی مخالفت کرنا، کا مقابلہ کرنا، پر اعتراض کرنا، کے خلاف بغاوت کرنا۔ــ ہ ہ: کو کوئی چیز نہ دینا۔تَمَنَّعَ عن: کو کرنے سے انکار کرنا، سے باز رہنا، سے احتراز کرنا، کو نہ کرنا، کو چھوڑ دینا، کو کرنے سے رک جانا، سے پہلو تہی کرنا، سے کنی کترانا، سے پہلو بچانا، سے بچنا۔تَمَنَّعَ: ناقابل رسائی ہونا یا ہو جانا، زوردار یا مستحکم ہونا یا ہو جانا، ناقابل تسخیر ہونا یا ہو جانا، مضبوط ہونا، زیادہ مضبوط ہونا۔ــ ب: کے پاس یا میں حفاظت طلب کرنا۔اِمْتَنَعَ عن: سے باز رہنا، سے احتراز کرنا، کو نہ کرنا، کو کرنے سے رک جانا، سے رکنا، باز رہنا۔ــ علی: کے لئے ناممکن ہونا۔ــ عن: کو کرنے سے انکار کرنا، کو مسترد کرنا۔ــ علی: سے کوئی تعلق کا انکار کرنا، سے علیحدہ رہنا۔منع: روکنا، رکاوٹ، دور کرنا، باز رکھنا، امتناع، ممانعت، پابندی، بندش، قید، بیوقوفی، پابندیاں، دست برداری، محرومی، روکے رکھنا، توقف۔مَنَعَۃ: مزاحمت، طاقت، قوت، سکت، دور نہ ہو سکنا، ناقابل عبور ہونا، ناقابل تسخیر ہونا۔منیع الجانب: مضبوط قوی، زوردار، مستحکم۔حاجز منیع: دور نہ ہو سکنے والی روک، ناقابل رسائی ناکہ۔مَنَاعَۃ: پہنچ سے باہر ہونا، طاقت، استحکام، ناقابل تسخیر ہونا، سختی، دشواری، زور آوری، مضبوطی، مزاحمت کی قوت، بیماری سے چھٹکارا، ڈپلومیٹک آزادی۔معافی یا استثناء، ناقابل گزر ہونا، دشوار گزاری، مانع دخول ہونا، ناقابل دخول ہونا، ناقابل گزر ہونا۔اَمْنَع: جس تک پہنچنا زیادہ مشکل ہو، زیادہ سخت گیر، زیادہ مزاحمت کرنے والا۔مانِع جمع موانِع: رکاوٹ، مزاحمت، احتیاطی، محافظ مانع امراض۔اعتراض جمع مانعات: کٹ آؤٹ cut-out (عدم مداخلت کا ایک آلہ)۔ما رأی مانعا: کوئی اعتراض نہ ہونا۔لا مانع: راستہ میں کچھ نہیں۔ــ عن: مجھے (آپ کو وغیرہ) اس سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ممنوع التدخین: سگریٹ پینا منع ہے۔ممنوع الدخول: داخلہ کی اجازت نہیں۔

منغنیس: منگنیز (manganese) (شیشہ بنانے کے کام آنے والی ایک دھات)۔

منغولیا: منگولیا (ملک کا نام)۔مَنْفِیلا: دھری پھیر، چکر کہنی، گھمیا (crank)۔مَنَلُوج: تمثیل کا فردی مناظر جس میں ایک اداکار طویل تقریر کرتا ہے (monologue)۔

منو: ا۔ مَنَا یَمْنُو مَنْوًا الرجُلَ بکذا: کو سے آزمانا، ایسا شخص جس کو آزمایا جائے، مَمْنُوٌّ بکذا کہلاتا ہے۔ المَنَا: پیمانہ یا وزن جو دو رطل کے برابر ہوتا ہے، اس کا تثنیہ مَنَوَان اور مَنَیَان ہے جمع اَمْنَاء و اُمْنٍ و مُنِیٌّ اسے المَنَاۃ بھی کہا جاتا ہے۔کہا جاتا ہے:داری مَنَا دارِہٖ: میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے۔مَنْلَۃ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ایک بت کا نام جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تھا اور ہذیل وخزاعہ کے قبائل کا بت تھا۔ المُنْوَة: خواہش، چاہی ہوئی چیز۔

۲۔ المانَوِیّة: ایک مذہب جس کا بانی مانی (۲۱۵......۲۷۶) تھا۔ جو دو مبداؤں کا قائل تھا یعنی مبدأ خیر و مبدأ شر یا نور و ظلمت۔

مني ا۔ مَنَى يَمْنِي مَنْيًا اللّهُ الخيرَ لفلان: اللہ تعالیٰ کا کسی کے لئے خیر مقدر کرنا ۔۔۔ مَنْيًا ہ: کو آزمانا۔ کہا جاتا ہے: مناهُ اللّهُ بكذا: اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاں چیز میں مبتلا کیا۔ مُنِيَ لكذا: کو کی توفیق دیا جانا۔ ۔۔۔ بكذا: کا سے امتحان لیا جانا، آزمایا جانا۔ مَنَّى تَمْنِيةً الرجلَ الشيءَ و بالشيء: کو کی آرزو دلانا، رغبت دلانا۔ أمنى إمْناءً الدِمَاءَ: خون بہانا۔ ۔۔۔ الحاجُّ: حاجی کا منی میں آنا یا اترنا۔ منی مکہ کے پاس ایک جگہ ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہاں خون بہایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ کہتے تھے۔ مَنَى اللّهُ عليه الموتَ: اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے موت مقدر کی کیونکہ وہاں مکہ معظمہ میں بھیجی جانے والی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تَمَنَّى الشيءَ: کا ارادہ کرنا۔ ۔۔۔ الكتابَ: کو پڑھنا۔ کہا جاتا ہے: هذا شيءٌ رويتهُ أم شيءٌ تمنيتهُ: یہ چیز تم نے روایت کی یا پڑھی۔ ۔۔۔ الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ ۔۔۔ الحديثَ: جھوٹی بات گھڑنا۔ امْتَنَى امْتِنَاءً الشيءَ: بات کو گھڑنا۔ ۔۔۔ الحاجُّ: حاجی کا منی میں آنا یا اترنا۔ المَنَى: قصد، موت، تقدیر الٰہی۔ آپ کہتے ہیں: انا راضٍ بمَنَى اللّهِ: میں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے راضی ہوں یا اس پر مطمئن ہوں۔ هو مِنِّي بمَنَى مِيلٍ: میرے اور اس کے درمیان ایک میل کی لمبائی ہے۔ الحَيَوَانُ المَنَوِيّ: نر کا مادہ تولید، خلیہ۔ المُنْيَة و المِنْيَة جمع مُنًى و مِنًى: خواہش، آرزو۔ المَنِيَّة جمع مَنَايَا: موت۔ الأُمْنِيَّة: جھوٹ۔ ۔۔۔ جمع أمانٍ و أمانيّ: خواہش، آرزو۔ المُتَمَنِّيَات: تمنائیں۔ مرغوبات۔

۲۔ مَانَى مُمَانَاةَ الرجلَ: کا انتظار کرنا، عذر کرکے ٹالتے رہنا، کو بدلہ دینا، جال میں پھانسنا، دھوکا دینے کی کوشش کرنا۔ ۔۔۔ الرفيقَ: ساتھی کے ساتھ باری باری سوار ہونا۔

۳۔ المَنِيهُوت (ن): ایک پودا جس کی جڑوں سے آٹا نکالا جاتا ہے اور دنیا بھر کے ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔

○ مَنَا يَمْنُو و مَنَى يَمْنِي مَنْوًا ہ: کو اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے آزمائش میں ڈالنا، آزمانا، اکسانا، ترغیب دینا یا تکلیف میں ڈالنا۔ مُنِيَ ب: کے ساتھ تکلیف میں ڈالا جانا، کے ذریعے سخت آزمایا جانا، کو جھیلنا، برداشت کرنا، اٹھانا، سے گزرنا، کا تجربہ کرنا، سے متاثر ہونا، کا شکار ہونا۔ ۔۔۔ ل: کو خوش قسمتی سے پانا۔ مَنَّى ہ ا/ب: میں کی خواہش پیدا کرنا، کو کا آرزومند کرنا، کو کی امید دلانا، کو کی امید کی وجہ سمجھانا، میں کی امیدیں پیدا کرنا۔ ۔۔۔ ہ ب/ان: سے وعدہ کرنا کہ ۔۔۔ مَنَّى نفسَهُ ب: جی کو کی امید سے خوش کرنا، پوری امید رکھنا کہ۔ أَمْنَى ہ: (خون) بہانا، منی (نر کا مادہ تولید) نکالنا، نکال پھینکنا۔ تَمَنَّى ہ: کی خواہش کرنا، آرزو کرنا۔ ۔۔۔ ل ہ: کے لئے کی دعا کرنا۔ اِسْتَمْنَى: جلق لگانا، مشت زنی کرنا۔ مَنًى و مَنِيَة جمع مَنَايَا: مقدر، نصیب، تقدیر، قسمت، بخت، موت کا انجام، موت۔ مَنِيّ: منی، نطفہ، مادہ حیات، نر کا مادہ تولید۔ مَنَوِيّ: منی کا، مادہ حیات کا، منی سے متعلق، مادہ حیات سے متعلق۔ مِنًى مذکر و مِنَى مونث: مکہ معظمہ کے قریب منا کی وادی۔ أُمْنِيَة جمع أمانٍ و أماني: خواہش، مطالبہ، دعوی، آرزو، سخت آرزو (عروج حاصل کرنے کی) تمنا۔ تَمَنٍّ جمع تمنات: خواہش آرزو، درخواست۔ استمناء: مشت زنی، جلق۔

مه: اسم فعل مبني علی السکون: بمعنی رک جا کبھی مَهٍ بھی کہا جاتا ہے۔

مهّ: ا۔ مَهَّ يَمَهُّ مَهًّا الإبلَ: اونٹ کے ساتھ نرمی برتنا۔ مَهِهَ يَمْهَهُ مَهَهًا الشيءُ: نرم ہونا۔ المَهَاهُ: نرمی، طراوت، تازگی، حسن، خوبصورت، سیر وغیرہ کا ساتھی، امید۔ المَهَهُ: سیر وغیرہ کا ساتھی، امید، مہلت، آرام فرصت۔

۳۔ مَهْمَهَ عن السفر: کو سفر سے منع کرنا، روکنا۔ ۔۔۔ فلانًا: کو مہ مہ کہہ کر ڈانٹنا۔ تَمَهْمَهَ عن الشيء: سے رک جانا یا باز رہنا۔ المَهْمَه و المَهْمَهَة جمع مَهَامِه: دور واقع بیابان، بنجر ملک۔

○ المِنيا: وسطی مصر کا ایک شہر۔

مهت: المَهْتَر و المِهْتار: حاکم، امیر (فارسی لفظ)۔

مهج: ا۔ مَهَجَ يَمْهَجُ مَهْجًا: بیماری کے بعد کے چہرہ پر رونق آنا۔ ۔۔۔ الولدُ أُمَّهُ: بچے کا ماں کا دودھ پینا۔ اِمْتَهَجَ الرجلُ: کا خون کھینچ لیا جانا۔ الماهِج (فا): خالص دودھ، پتلا دودھ یا چربی۔ المُهْجَة جمع مُهَج او مُهَجَات: خون یا دل کا خون، روح۔ مهجة كل شيء: اچھا اور خالص حصہ۔ الأَمْهَجُ و الأُمْهُوج و الأُمْهُجَان: خالص دودھ۔

۲۔ رجلٌ مَمْهُوج: نحس ڈھیلے پیٹ والا

○ [illegible]

خون، دل، بالکل اندرونی ذات، باطنی، فطرت، گودا، مغز، روح، زندگی۔ طُعِنَتْ الأمالُ في مُهَجَتِها: امیدوں کو موت کا گھونسہ لگا۔

مهد: ا۔ مَهَدَ يَمْهَدُ مَهْدًا الفراشَ: فرش بچھانا ۔۔۔ لنفسه: اپنے لئے کمانا، عمل کرنا۔ مَهَّدَ الفراشَ: فرش بچھانا۔ ۔۔۔ الأمرَ: کام یا معاملہ کو درست، آسان اور ہموار کرنا ۔۔۔ لهُ العُذرَ: سے عذر پیش کرنا۔ ۔۔۔ لفلانٍ عذرَہ: کا عذر قبول کرنا۔ ۔۔۔ لنفسه خيرًا: اپنے لئے بھلائی مہیا کرنا۔ تَمَهَّدَ الفراشَ: فرش بچھانا۔ ۔۔۔ له الأمرُ: کے لئے کام یا معاملہ آسان ہونا۔ ۔۔۔ الرجلُ: قادر ہونا۔ اِمْتَهَدَ الشيءُ: بچھنا۔ ۔۔۔ الرجلُ: کمانا، عمل کرنا۔ اِسْتَمْهَدَ فراشًا: فرش بچھانا۔ المَهْد جمع مُهُود: گہوارہ، پست زمین۔ المُهْد جمع مِهَدَة و أَمْهاد و المُهْدَة جمع مُهَد: نرم و پست و ہموار زمین۔ المِهاد جمع مُهُد و مُهُد و أَمْهِدَة: فرش، پست زمین۔

۲۔ المَهِيد: خالص مکھن۔ ماءٌ مُمَهَّد: درمیانہ پانی، نہ گرم نہ سرد۔

○ مَهَّدَ ہ: کو یکساں و برابر پھیلانا، کو ہموار کرنا، برابر کرنا، آسان کرنا۔ (سڑک) بنانا، سڑک پر فرش لگانا، کو چپٹا کرنا، کو ترتیب دینا، نمٹانا، سیدھا کرنا، کو ترتیب سے رکھنا، سلیقے یا ترتیب سے لگانا، کو رکاوٹوں سے آزاد کرنا، صاف کرنا، کے لئے راہ ہموار کرنا، (ل صلہ کے ساتھ) ۔۔۔ له ہ: کے لئے کو آسان بنانا، آسان کرنا، ڈھیلا کرنا، سہل الحصول یا قابل حصول بنانا ۔۔۔ ہ: کو تیار کرنا، بستر بچھانا ۔۔۔ الكُرَةَ ل: گیند کسی کی طرف بڑھانا ۔۔۔ ل ب: کے لئے راستہ بنانا، کھولنا، صاف کرنا یا تیار کرنا یا کے ذریعے یا کیساتھ راستہ بنانا، کھولنا، صاف کرنا، تیار کرنا، کو کے ذریعے یا کیساتھ کھولنا، تیار کرنا، شروع کرنا، چلانا، قائم کرنا، کا باعث ہونا، چالو کرنا۔ تَمَهَّدَ: فرش لگایا جانا، صاف ہونا، کھلنا (راستہ)، نمٹایا جانا، ترتیب دیا جانا، اچھی طرح چلنا، واقع ہونا، کا متوقع نتیجہ نکلنا، ترتیب میں ہونا، سلیقے یا قرینے سے لگنا، سیدھا ہونا۔ مَهْد جمع مُهُود: بستر، گہوارہ۔ من المهد الی اللحد: گہوارے سے قبر تک۔ قَتَلَهُ في مهده: کو ابتدا ہی میں ختم کر دینا، دل کی کلی نہ کھلنے دینا، گربہ کشتن روز اول۔ كان في مهده ابھی تک آغاز یا بچپن میں ہونا، ابتدائی مراحل سے آگے نہ بڑھا ہونا۔ مِهاد: آرام کی جگہ، بستر، سینہ، دل حدود، گوشہ، باڑہ (جس میں کوئی چیز رہتی ہے)۔ ۔۔۔ تمهيدًا ل: کو آسان کرنے کے لئے، کی تیاری میں، کی طرف

martat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ابتدائی قدم کے طور پر، کی غرض سے۔ تَمْهِيدِي: تمہیدی، ابتدائی، تعارفی، افتتاحی، دیباچہ کے طور پر، آزمائشی، تیار کرنے والا۔ اجراءات تَمْهِيدِيَه: ابتدائی انتظامات، ابتدائی کارروائیاں۔ حُكْمٌ تَمْهِيدِي: مکالماتی فیصلہ۔ قرارٌ تمهيدي: ہنگامی یا عارضی حکم، عارضی حکم امتناعی۔ شرحٌ تمهيدي: افتتاحی بیان یا تشریح۔ مُمَهَّد: ہموار کیا ہوا، برابر کیا ہوا، ہموار، برابر، یکساں، خوب ترتیب دیا ہوا، اچھی طرح تیار کیا ہوا، تیار کیا ہوا، صاف کیا ہو یا کھلا (راستہ)، فرش لگی (سڑک) پختہ (سڑک)۔ مُمَاهَد: فرش لگی، پختہ، درست کی ہوئی (سڑک)۔

مهر: ۱۔ مَهَرَ ـ مَهْراً و مُهُوراً و مَهَاراً و مَهَارَةً الشيءَ و فيه و به: میں ماہر ہونا، تجربہ کار یا واقفکار ہونا۔ صفت ماهر۔ کہا جاتا ہے: مَهَرَ في العلم: وہ علم میں ماہر ہوا اور عالم ہوا ـــ في صناعته: دستکاری میں ماہر ہونا، تجربہ کار ہونا۔ ماهَر مُمَاهَرَةً هُ فمَهَرَهُ: سے ماہر ہونے میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا۔ تَمَهَّرَ: ماہر ہونا، حاذق ہونا، تیرنا۔ الـمَاهِر جمع مَهَرَة: ماہر و حاذق، اچھا تیرنے والا۔ الإبلُ المَهْرِيَّة جمع مَهَارَى و مَهَارٍ و مَهَارِيّ: مهر ان بن حیدان کے، جو یمن کا عرب تھا، اونٹ، کہا گیا کہ ان اونٹوں کی تیز رفتاری میں کوئی چیز ان کی برابری نہیں کرسکتی تھی۔

۲۔ مَهَرَ ـ مَهْراً المرأةَ: کو مہر دینا یا اس کا مہر مقرر کرنا۔ أَمْهَرَ المرأةَ: عورت کو مہر دینا یا اس کا مہر مقرر کرنا، کا کسی مرد سے مہر پر نکاح کرنا۔ صفت مفعولی: مَمْهُورة۔ المَهْر (مص) جمع مُهُور و مُهُورَة: مہر۔ کہا جاتا ہے: هذا مهرُ ذلك: یہ اس کا عوض یا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ الـمَهِيرة من النساء جمع مَهَائِر: بہت مہر والی عورت۔

۳۔ مَهَّرَ: بچھیرا مانگنا یا حاصل کرنا۔ أَمْهَرَت الفرسُ: گھوڑی کا بچھیرے یا بچھیری والی ہونا۔ الـمُهْر جمع مِهَار و أمْهار و مِهَارَة مونث مُهْرة جمع مُهَر و مُهَرات و مُهُرات: بچھیرا، پہلا بچہ (گھوڑی یا گدھی وغیرہ کا) ـــ جمع مَهَرة: سینہ کے بالائی حصہ کی ہڈی۔

۴۔ المُهْر جمع مِهَرة: حنظل کا پھل (ح) کبوتری کا بچہ۔

مہر، شامپ سیل (فارسی لفظ) مولدوں اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں: مَهَرَ الكتابَ: اس نے کتاب پر مہر لگائی۔ المَهْرِيّة: سرخ گیہوں۔

۵۔ المِهْرجان: پارسیوں کی عید، عظیم جشن۔

مَهْر جمع مُهُور: مہر، قیمت، شرط کا روپیہ، بدی ہوئی رقم، فدیہ۔ مَهْردار: مہر کا حامل۔

مهز: مَهَزَ ـ مَهْزاً هُ بيده: کو ہاتھ سے دھکیلنا۔

مهش: مَهَشَ ـ مَهْشاً هُ: کو جلانا، کو ناخنوں سے کھرچنا۔ إِمْتَهَشَ: جلنا۔

مهص: مَهَصَ الثوبَ: کپڑے کو صاف کرنا، سفید کرنا۔ تَمَهَّصَ في الماء: پانی میں ڈوبنا۔ إِمْهَاصَّت الأرضُ: زمین کا بے نبات ہونا، صفت مَهْصاء۔

۱۔ مَهَقَ ـ مَهْقَاتِ الخيلُ: گھوڑے کا دوڑنا۔

مهق: ۲۔ مَهَقَ ـ مَهْقاً الفصيلَ: اونٹ کے بچے کو پانی پلانا۔ تَمَهَّقَ الشرابَ: تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شراب پینا۔

۳۔ مَهِقَ ـ مَهَقاً: بہت سفید ہونا۔ المَهَق (مص): پانی پر کی سبزی۔ الأَمْهَق مونث مَهْقَاء جمع مُهْق: بہت سفید۔ المُهْقَة: بہت سفید رنگ۔

مهك: ۱۔ مَهَكَ ـ مَهْكاً هُ: کو نرم و چکنا کرنا ـــ مَهَّكَ الشيءَ: کو باریک پیسنا۔ إِمَّهَكَ الرجلُ: کم گوشت والا ہونا۔ مَهْكَةُ الشباب و مُهْكَتُهُ: جوانی کی رونق و تازگی۔ المُهُوك: نرم کمان۔ المُمَهَّك و الـمُتَمَهِّكُ: بھری جوانی والا۔ کہا جاتا ہے: شابٌّ مُمَهَّكٌ: بھری جوانی والا۔ الـمُمَّهِك: لمبا، کاٹنے والا۔

۲۔ مَهَكَ ـ مَهْكاً في السير: جلدی جلدی چلنا۔ تَمَهَّكَ في العمل: کام مناسب طور سے کرنا۔ تَمَاهَكَ القومُ: باہم جھگڑنا۔ إِمَّهَكَ في العدو: تیز دوڑنے کی کوشش کرنا۔

مَهَكَ ـ مَهْكاً: پیسنا، مسلنا، کچلنا، خراش ڈالنا۔ مَهْكَة و مُهْكَة: جوانی کی تازگی، جوانی کا جوبن۔

مهل: ۱۔ مَهَلَ ـ مَهْلاً و مُهْلَةً و تَمَهَّلَ في العمل: آرام سے جلد بازی کے بغیر کام کرنا۔ مَهَّلَ و أَمْهَلَهُ الدينَ: کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا ـــ الرجلَ: سے نرمی برتنا۔ إِسْتَمْهَلَهُ: کو انتظار کرنے کے لئے کہنا، سے مہلت مانگنا۔ الـمَهْل (مص): آرام، فرصت، آہستگی۔ کہا جاتا ہے: مَهْلاً و على مَهْلٍ: نرمی سے، جلدی نہ کر، آہستہ کر۔ یہ لفظ مصدر ہے اور اپنے فعل کی جگہ کام دیتا ہے۔ اس کا مذکر، مونث، واحد، تثنیہ اور جمع یکساں ہیں۔ الـمَهَل: نرمی، آہستگی، کام شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا۔ الـمُهْلَة (مص): نرمی، آہستگی۔ (کہا جاتا ہے: مَشَى على مُهْلَتِه: وہ آرام سے چلا) تیاری۔ کہا جاتا ہے: خذ المُهْلَة في أمرك: اپنے کام کی تیاری کرو۔

۲۔ مَهِلَ ـ مَهَلاً الرجلُ: بھلائی میں آگے بڑھنا۔ صفت مَاهِل۔ مَهَّلَ و أَمْهَلَ في الأمر: میں مبالغہ کرنا، عذر کرنا۔ المَهَل: کسی کے پہلے اسلاف، آگے بڑھنا، سبقت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ ذو مَهَل: فلاں کو خیر میں سبقت حاصل ہے۔ أَخَذَ على فلان المُهْلَة: وہ اس سے عمر یا ادب میں بڑھ گیا۔

۳۔ الـمُهْل و الـمَهَل: پیپ یا خاص میت کی پیپ۔ الـمُهْل: فلذات جیسے چاندی، لوہا، تانبا، پگھلی ہوئی دھاتیں، پتلا قطران، پتلا تیل، زہر، پیپ خصوصاً مردہ کی، روٹی سے جھڑی ہوئی راکھ، زیتون کو نچوڑنے کے بعد گرنے والی گٹھلیاں اور چھلکے۔ الـمُهْلَة: راکھ میں بچی ہوئی چنگاری، پتلا قطران ـــ والمَهْلَة و المِهْلَة و الـمَهَلَة: پیپ خصوصاً مردہ کی۔ الـمُتَمَهِّل من الرجال: لمبا مرد۔

مَهَلَ ـ مَهْلاً و مُهْلَةً في: میں دیر لگانا۔ وقت گنوانا، آہستہ ہونا، وقت لینا۔ مَهَّلَ و أَمْهَلَهُ: کو وقت دینا، کو مہلت دینا، تاخیر دینا۔ تَمَهَّلَ: آہستہ ہونا ـــ في: میں جان بوجھ کر آہستہ بڑھنا۔ تَمَهَّلَ في خُطَاهُ: ست قدم ہونا۔ تَمَهَّلَ يقولُ: اس نے آہستہ سے کہا۔ تَمَاهَلَ بمعنی تَمَهَّلَ۔ إِسْتَمْهَلَهُ: سے مہلت مانگنا، کو انتظار کرنے کے لئے کہنا۔ مَهْل و مَهَل: سستی، ست رفتاری، آہستگی، آرام، فرصت، مہلت۔ مَهْلاً: سج سج، تامل سے اطمینان سے، آہستہ، عجلت کے بغیر۔ على مهل: آہستہ، سج سج تامل سے، اطمینان سے۔ بلا عجلت۔ مَهْلَكَ: دلجمعی سے کئے جاؤ۔ گھبراؤ مت۔ على مهلك: دلجمعی سے کئے جاؤ، گھبراؤ مت۔ مُهْلَة: مہلت تاخیر، کسی فیصلہ کیلئے وقت کی حد، پر غور کرنے کا وقت۔ مَهِيلة: بڑی کشتی۔ إمْهال: مہلت دینا، تاخیر کی رعایت۔ إمْهالي: تاخیر پر مائل، وقت ضائع کرنے والا، دیر لگانے والا، تعطل میں ڈالنے والا۔ تَمَهُّل: آہستگی، سوچ بچار۔ بتمهل: آہستہ، بتدریج۔ مُتَمَهِّل: آہستہ محتاط، آرام کام کرنے والا، عجلت کے بغیر، مطمئن۔ مُتَماهِل: آرام سے کام کرنے والا، آرام دہ، مطمئن، بلا عجلت، آہستہ۔

مهم: مَهْمَا: اسم شرط دو فعلوں کو جزم دیتا ہے غیر ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

۱۔ ظرف زمان ہے: جیسے مَهْمَا يَزُرْنِي زيدٌ أُكْرِمْهُ: جب بھی زید میری ملاقات کو آئے گا میں اس کی عزت کروں گا۔

۲۔ غیر ظرف بھی ہے: جیسے مَهْمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ: جو تو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرے گا میں کروں گا۔

مہن: مہن مہنۃ و مہنۃ الرجل کی خدمت کرنا۔ مہن اپنی حرفت میں کام کرنا۔ الرجل کو مارنا، اور سے سختی کرنا۔ الثوب کپڑا کھینچنا، کو بوسیدہ و پرانا کرنا۔ مَہُنَ مَہَانَۃً: حقیر و کمزور ہونا۔ ماہنۃ: کو کرنا، کی مشق کرنا۔ امہن: سے خدمت لینا، کو کمزور کرنا۔ امتہن الشیء کو حقیر کرنا، بوسیدہ کرنا۔ الرجل کو نوکر رکھنا۔ و امتہن الرجل نوکری کرنا۔ المِہْنَۃ و المَہْنَۃ و المَہِنَۃ جمع مِہَن و مُہَن کام اور خدمت میں مہارت۔ کہا جاتا ہے نظفت المرأۃ بمہنۃ بیتہا: عورت نے اپنا گھر درست کیا۔ ما مہنتک ہہنا تمہارا یہاں کیا کام ہے۔ ہو فی مہنۃ اہلہ وہ اپنے اہل کی خدمت میں مشغول ہے۔ خرج فی ثیاب مہنتہ وہ اپنے کام کاج کے کپڑوں میں نکلا۔ الماہن (فا) جمع مُہّان و مَہَنَۃ و مہان م ماہنۃ جمع مَوَاہِن نوکر، غلام۔ المَہِین جمع مُہَنَاء: حقیر، کمزور، کم سمجھ۔

۲۔ مَہَنَ مَہْنًا و مَہْنَۃً ہ: کی خدمت کرنا، کو ذلیل کرنا، سے ذلت آمیز سلوک کرنا۔ ـہ: کی حیثیت بگاڑنا، کو بے وقعت کرنا، عام خدمت میں تھکا دینا، استعمال سے تھکا دینا۔ مَہُنَ مَہَانَۃً: ذلیل ہونا، فرومایہ ہونا، کمینہ ہونا، نیچ ہونا، خدمتگار، نوکر، یا شاگرد پیشہ ہونا۔ مَاہَن ـہ کوئی پیشہ کرنا، کوئی حرفت کرنا۔ امتہن ہ: کو ذلیل کرنا، سے ذلت آمیز سلوک کرنا، کو سخت سست کہنا، کو ذلیل سمجھنا، کو حقیر جاننا، سے نفرت کرنا، کو خدمت گزاری کے کاموں کے لئے نوکر رکھنا۔ ـہ: کی حیثیت بگاڑنا، کو عام خدمت میں تھکا دینا، استعمال سے تھکا دینا۔ ہ: کو پیشہ ورانہ طور پر کرنا۔ مِہْنَۃ جمع مِہَن: کام، پیشہ، شغل، مشغلہ، دستکاری، کاروبار۔ مِہْنِی: پیشہ ورانہ، پیشہ کے انتخاب کے متعلق سودمندانہ طور پر ملازم۔ الارشاد المہنی: پیشہ کے انتخاب کے متعلق ماہرانہ مشورہ۔ مَہِین جمع مُہَنَاء: حقیر، ذلیل، کمینہ، فرومایہ، قابل مذمت، لائق مذمت۔ امتہان: ذلت، خواری، پستی، گراوٹ، تذلیل، شرمساری، حقارت، ہتکی، ناجائز یا غلط استعمال، بدسلوکی، نامناسب سلوک۔ ماہِن جمع مُہّان: خدمت گزار نوکر۔

مہو: امَہَا یَمْہُو مَہْوًا الرجلَ: کو بہت مارنا، کو زور سے مارنا۔

۲۔ مَہَا یَمْہُو مَہَاۃَ البقرۃُ الوحشیۃُ: نیل گائے کا خالص سفید ہونا۔ مَہُوَ یَمْہُو مَہَاوَۃً اللبنُ او السمنُ: دودھ یا گھی کا پتلا ہونا۔ صفت مَہُوّ۔ اَمْہَی اللبنَ: دودھ میں پانی زیادہ کرنا۔ القدرَ: ہانڈی میں پانی زیادہ کرنا۔ الحدیدۃَ: لوہے کو تیز کرنا۔ ت العینُ: آنکھ سے آنسو بہنا۔ القدحَ: تیر سیدھا کرنا۔ الفرسَ: گھوڑے کی رسی لمبی چھوڑنا، کو چلا کر گرمانا تا کہ پسینہ آئے۔ اسم المہی۔ الحبلَ: رسی ڈھیلی کرنا۔ فلانًا: بہت تعریف کرنا۔ کہا جاتا ہے: حفر البئر حتی اَمْہَی: اس نے کنواں یہاں تک کھودا کہ پانی تک پہنچ گیا۔ المَہْو (مص): سفید کنکری، بہت پانی ملا دودھ، موتی، بلور، اولہ، تازہ کھجوریں، پتلے پھل والی تلوار۔ المَہَاۃ جمع مَہًا و مَہَوات و مَہَیَات: بلور، نیل گائے، سورج۔

مہی: امَہَی یَمْہَی و یَمْہِی مَہْیًا الشفرۃَ او الحدیدۃَ: پھل کو تیز یا پتلا کرنا۔ الشیءَ: چیز کو گلٹ کرنا۔ اَمْہَی و اِمْتَہَی الشفرۃَ او الحدیدۃَ: پھل کو تیز کرنا، پتلا کرنا۔ اسْتَمْہَی الفرسَ: گھوڑے کو پوری رفتار پر چھوڑنا۔ القومَ: قوم کا دشمن کی صفوں کو چیر کر شکست دینا۔

۲۔ مَہْیَم: کلمہ استفہام ہے بمعنی تمہارا کیا حال ہے؟، یا تمہیں کیا ہوا؟ یا کیا خبر ہے؟۔

موء: مَاءَ یَمُوءُ مُوَاءً السنورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ صفت مَوُوء۔ اَمْوَأ السنورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ الرجلُ: بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنا۔ المائیۃ و المائنۃ و المائیَّۃ (ح): بلی۔

موب: المُوبَذُ و المُوبَذَانُ: (فارسی لفظ) مجوسیوں کا حاکم یا گرو، فلسفی، ماہر تجربہ کار۔

موت: امَاتَ یَمُوتُ مَوْتًا: مرنا، کی روح کا جسم کو چھوڑ کر چلا جانا۔ ت الریحُ: ہوا کا ٹھہرنا۔ ت النارُ: آگ کا بجھنا۔ ت الحمّیٰ: بخار کی تیزی کا کم ہونا۔ الحرُّ او البرد: گرمی یا سردی کا زائل ہونا۔ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ مَوَاتًا و مَوَتَانًا المکانُ: جگہ ویران ہونا۔ الطریقُ: راستے کا چلنا بند ہو جانا۔ کہا جاتا ہے مات فوق الرحل وہ گہری نیند سو گیا۔ مَوَّتَ ہ: کو مار دینا۔ ماوت مُمَاوَتَۃً قِرنَہ: اپنے مدمقابل سے صبر میں مقابلہ کرنا۔ اَمَاتَ اِمَاتَۃً ہ: کو مار ڈالنا۔ نفسَہُ: اپنی خواہشات کو مارنا۔ غضبَہُ: غصہ ٹھنڈا کرنا۔ الرجلُ: مرے ہوئے بچوں والا ہونا۔ ت الناقۃُ او المرأۃ: مرے ہوئے بچے والی ہونا۔ صفت مُمِیت و مُمِیتۃ جمع مَمَاوِیت۔ القومُ: قوم کے مویشیوں [illegible] کو [illegible]

اچھی طرح پکانا اور ابالنا۔ اُمِیتَت اللفظۃ: لفظ کا متروک الاستعمال ہونا۔ کہا جاتا ہے ما اَمْوَتَہُ وہ کتنا مردہ دل اور کمزور دل ہے۔ تَمَاوَتَ: جھوٹ موٹ کا مردہ بننا، خاموشی اور کمزوری دکھانا۔ اِسْتَمَاتَ اِسْتِمَاتَۃً و اِسْتِمَاتًا: اپنے لئے موت مانگنا، کسی چیز کی خاطر سب کچھ کرنا۔ الشیءُ: ڈھیلا ہونا۔ الثوب: کپڑے کا بوسیدہ و پرانا ہونا۔ المائت: قریب المرگ۔ کہا جاتا ہے مَوْتٌ مائتٌ: سخت موت۔ المَوْت: موت۔ الموت الاحمر: مقتول ہو کر مرنا۔ الموت الابیض: طبعی موت یا اچانک موت۔ الموت الاسود: گلا گھٹ کر مرنا۔ المَوْتَۃ: موت۔ المُوتَۃ: دیوانگی، مرگی۔ المَوَات (مص): بے جان چیز، غیر آباد زمین۔ المُوتَان: جانوروں کی وبا یا مری۔ کہا جاتا ہے ہذا مُوتانُ الفؤاد یہ کندذہن ہے۔ مونث مَوتانۃ۔ المُوتانُ: جانوروں کی وبا یا مری۔ المَوَتَان: موت۔ ویران زمین، غیر جاندار چیزیں۔ کہا جاتا ہے اشتر من الموتان ولا تشتر من الحیوان: زمین اور مکان خریدو۔ غلام اور جانور نہ خریدو۔ المَیْت جمع اَمْوات و مَوْتَی و مَیْتُون و المَیِّت جمع مَیِّتُون: میت، مردہ۔ مونث مَیْتَۃ و مَیِّتۃ و مَیْتَۃ جمع مَیْتَات و مَیِّتَات۔ المَیْتَۃ جمع مَیْتَات: میت کا مونث جانور جو طبعی موت مرا ہو یا غیر شرعی طریقہ پر مرا ہو۔ المِیتَۃ: موت کی حالت اور اس کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے: مات مِیتَۃً صالِحَۃً: وہ اچھی موت مرا۔ مات مِیتَۃَ سوءٍ: وہ بری موت مرا۔ المَیتُوتَۃ: موت۔ الاِمَاتَۃ عند المسیحیین بعض کھانوں سے اجتناب، نفسانی خواہشات کو دبانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ المَمَات: موت یا موت کا وقت یا زمانہ۔ المُمَات من اللفظ: متروک الاستعمال لفظ۔ خَطِیئَۃٌ مُمِیتَۃٌ: گناہ کبیرہ، تباہ کن گناہ۔ المُسْتَمِیت (فا): موت کا سامنا کرنے والا، نڈر، پاگل پن کی علامتیں ظاہر کرنے والا مگر پاگل نہ ہو۔

۲۔ استماتَ اِسْتِمَاتَۃً و اِسْتِمَاتًا: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔

مَاتَ مَوْتًا: مرنا، تباہ ہونا، برباد ہونا، زندگی سے ہاتھ دھونا، مردہ ہو جانا، کم ہونا، مدھم پڑنا، فرو ہونا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا۔ مَوَّتَ و اَمَاتَ ہ: کو مار دینا، فنا کرنا، کو قتل کرنا، مار ڈالنا، کی موت ہونا، کی موت کا باعث ہونا۔ اَمَاتَ نفسَہُ: نفس کشی کرنا، نفس کو مارنا۔ ہ: کو کچل دینا، دبا دینا، ختم کرنا، بے حس کرنا، کا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زور کم کرنا، گھٹانا۔ تَـمـاوت: مردہ بننا، مرنے کا تصنع کرنا، جھوٹ موٹ مردہ بننا، کمزوری کا بہانہ کرنا۔ فی: میں ست ہونا، مٹھا ہونا، ڈھیلا ڈھالا ہونا۔ اِسْتَمَاتَ: موت طلب کرنا، موت کی پروا نہ کرنا، موت کو خاطر میں نہ لانا، موت کا مقابلہ کرنا، جان قربان کرنا، زندگی کو خطرہ میں ڈالنا ـــ فی: جان پر کھیل کر یا مایوسی کی حالت میں کیلئے جدوجہد کرنا، کے لئے جان پر کھیل جانے والی کوشش کرنا، جان پر کھیل کر یا مایوسی کی حالت میں لڑنا۔ مـوت و مـوتـہ: موت مَوَات: بے جان، بے کیف چیز، بنجر، غیر مزروعہ زمین۔ مَیِّت و مَیْت جمع اَمْوَات و مَوتَی: بے جان، مردہ، متوفّی، آنجہانی، مرنے والا۔ مَیْتَۃ: لاش، نعش، لوتھ، مردار، ایسے جانور کا گوشت جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ مِیتَۃ: مرنے کا انداز۔ مِیتَۃَ الابطال: ہیرو کی موت، جنگ میں موت۔ مَمَات: جگہ جہاں کوئی مرا ہو۔ موت۔ اِمَاتَۃ: مارنا، نفس کشی۔ اِسْتِمَاتَۃ: موت کا مقابلہ ـــ فی: کیلئے جان پر کھیل جانے والی کوشش، کیلئے جان پر کھیل جانے والی جدوجہد۔ مَـائِـت: مرنے والا، جاں بلب، قریب المرگ، فانی۔ مُمِیت: مہلک، جان لیوا، کاری۔ خطیئۃٌ مُمِیتَۃٌ: گناہ کبیرہ۔ مُمَات: متروک، غیر مروج، دقیانوسی۔ مستمیت: موت کا مقابلہ کرنے والا، غیر محتاط، مردانگی کا، شہید، شہید کی موت جھیلنے والا۔

۞ موتو سیکل جمع موتو سیکلات: موٹر سائیکل۔

موث: مَاثَ یَمُوثُ مَوثًا و مَوَثَانًا الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری میں ملانا، خلط ملط کرنا۔ الشیءَ فی الماءِ: کو پانی میں حل کرنا، تر کرنا۔ اِنْمَاثَ: خلط ملط ہونا، حل ہونا، تر ہونا۔

موج: مَاجَ یَمُوجُ مَوْجًا و مَوَجَانًا البحرُ: سمندر کا موج مارنا، جوش مارنا ـــ القومُ: قوم کے معاملات کا مضطرب و بے ترتیب ہونا، لوگوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا ـــ عن الحق: حق سے پھر جانا، الگ ہو جانا۔ تَمَوَّجَ البحرُ: سمندر کا موج مارنا، جوش مارنا۔ المَوْج (مص) جمع اَمْوَاج واحد مَوْجَۃ جمع مَوجَات: موج، لہر۔ مَوْجَۃُ الشباب: آغازِ جوانی۔ المَوْجَاتُ المُسْتَقِرَّۃُ (ف): مستقر موجیں۔ المَوَّاج: بہت موجیں اٹھانے والا۔

۞ مَاجَ مَوْجًا و مَوَجَانًا: سمندر کا چڑھنا اترنا، ابھر کر گرنا، بلند ہونا، لہریا ہونا، امنڈ آنا، موجزن ہونا، متلاطم ہونا، سمندر کی لہروں کا چڑھنا اترنا ـــ ب: سے برانگیختہ ہونا، مشتعل ہونا، جوش میں آنا، بے چین ہونا، مضطرب ہونا۔ تَموَّجَ: بمعنی ماج نیز تَموَّجَ: لہروں کی صورت میں اٹھنا، ہلکورے اٹھنا، (پانی کی سطح پر) ہلکی ہلکی موجیں پیدا ہونا، لہرانا، ہلنا جلنا۔ تَماوَجَ: لہرانا، لہریا ہونا ـــ خول: کے گرد لہریا لکیر بنانا۔ بہنا، چڑھنا، طغیانی میں ہونا، بلند ہونا، امنڈ آنا۔ مـوج طـویـل: لونگ ویو (long wave) (ریڈیو)۔ مـوج قـصـیـر: شارٹ ویو (short wave) (ریڈیو)۔ مـوج مـتـوسـط: درمیانی اور ہلکی لہر (medium wave)۔ امواج صوتیۃ: آواز کی لہریں sound waves۔ امواج مُسْتَمِرَّۃ: مسلسل لہریں۔ امواج مُضْمَحِلَّۃ: بتدریج گھٹنے والی لہریں۔ امواج مُنْعَکِسَۃ: منعکس یا بالواسطہ لہریں۔ موجۃ حارۃ: گرم لہر، گرمی کی لہر۔ موجۃ الشباب: جوانی کا جوبن یا تازگی۔ سَعَۃُ الموجۃ: ارتعاش کا عرض۔ طول الموجۃ: لہر کی لمبائی۔ موجۃ استنکار: ناپسندیدگی کی لہر۔ مَوَّاج: لہریا، متلاطم جمع مَوَّاجات: ٹرانسمیٹر (transmitter)۔ تمویج: بالوں کا لہرانا۔ التمویج علی البارد: سرد لہر، مستقل لہر۔ تَمَوُّج جمع تَموُّجات: اہتزاز، لرزش، جنبش، ارتعاش، لہریا ہونا، لہریا حرکت، ہلنا، جلنا۔ تَمَوُّجات صوتیۃ: آواز کی لہریں۔ تموج الہواء: فضائی ارتعاشات۔ مـائـج: ہنگامہ خیز، طوفانی، طوفان خیز، طلاطم خیز (سمندر)۔

موخ: مَاخَ یَمُوخُ مَوْخًا الغضبُ: غصہ کا ٹھنڈا ہونا۔

۞ مَوْدَۃ جمع مَوْدَات: فیشن، سٹائل، فیشن ایبل جمع ہیٹ فیشن، زنانہ ٹوپیاں۔ علی المودۃ: نئے فیشن کا، فیشن ایبل، عام رواج کے مطابق، مقبول طرز کے مطابق، وضع دار، کسی خاص طرز کا (stylish)۔

۞ مَوْدِل یا مَوْدِیل جمع مودیلات: ماڈل، نمونہ۔

مود: المَاذ: خوش طبع، خوش اخلاق۔ المَاذِی: سفید یا عمدہ شہد، ہتھیار، نرم زرہ۔ الماذیۃ: نرم زرہ، شراب۔

مور: ا۔ مَارَ یَمُورُ مَوْرًا البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا، جوش مارنا ـــ الدمُ علی الارض: خون کا زمین پر پھیل کر بہنا ـــ الدمَ: خون کو زمین پر پھیلا کر بہانا۔ ـــ الشیءُ: آگے پیچھے تیزی سے ہلنا ـــ السنانُ فی المطعون: نیزے کا زخمی کے بدن میں ہلنا ـــ الترابُ: گردوغبار کا اڑنا ـــ ت الریحُ الترابَ و بالتراب: ہوا کا گردوغبار اڑانا ـــ الصوفُ عن الجسد: جسم پر سے پشم اکھیڑنا۔ اَمَارَ الدمَ: خون بہانا ـــ السنانَ فی المطعون: نیزہ کو نیزہ زدہ (زخمی) میں ہلانا ـــ ت الریحُ الترابَ: ہوا کا گردوغبار اڑانا۔ تَمَوَّرَ: تردد کی حالت میں آنا جانا ـــ الشعرُ: بالوں کا دائیں بائیں ہونا۔...... الشیءُ: چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَمَوَّرَ الوبرُ و نحوہ عن الدابۃ: بال یا اون کا جانور کے بدن پر سے گر جانا۔ اِنْمَارَ الشعرُ: بالوں کا اکھڑ جانا۔ اِمْتَارَ اِمْتِیَارًا السیفَ: تلوار سونتنا۔ المائِر (فا) مونث مائِرۃ جمع مائرات و مَوَائِر: کم عقل آدمی۔ سَھْمٌ مائِر: گھس جانے والا ہلکا تیر۔ المَوْر: تیزی، نرم چال، بہت آمدورفت کا ہموار راستہ۔ المُور: ہوا میں اڑنے والا گردوغبار، مٹی جس کو ہوا اڑائے۔ المُورَۃ: گری ہوئی اون۔ المُوَارۃ: گری ہوئی اون، کسی چیز سے گری ہوئی چیز۔ فنا ہونے والی چیز کا بقیہ۔ المَوَّار: المائر کا اسم مبالغہ۔ ریحٌ مَوَّارَۃ و ارباحُ مُوْرٌ: گردوغبار اڑانے والی ہوا یا ہوائیں۔

۲۔ المُور (ح): ایک قسم کی بھیڑ۔

۳۔ مار و ماری: سریانی لفظ بمعنی جناب اکثر عیسائی اولیاء کے لئے مستعمل ہے۔ ولیہ کے لئے مُرْت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۔ المَوْرَج: گیہوں وغیرہ، گاہنے کا آلہ عوام اسے نورج کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جو غلہ گاہنے کا آلہ ہے۔

۵۔ المُورِکس (ح): ایک قسم کی مچھلی جو سرخ رنگ کا سائل خارج کرتی ہے۔ قدماء خصوصا اہل فنیق، اس سے ارغوانی (اودا) رنگ بناتے تھے۔

۞ مَارَ مَوْرًا: ادھر ادھر ہلنا، حرکت کرنا آگے پیچھے یا ایک طرف سے دوسری طرف ہلنا، متحرک ہونا، حرکت میں آنا۔ تَمَوَّرَ: بمعنی مَارَ یمور مورًا۔ مَوَّار: رقاص، گھڑی کا رقاص pendulum۔ تَمَوُّر: ہلنا جلنا، جھولنے والی حرکت۔ تمورا: آگے پیچھے، ادھر ادھر۔ المورہ: موریا Moreal۔ مَوَارتزم: وجع المفاصل، جوڑوں کا درد۔ مورفین: مارفیا، افیم کا ست (morphine)۔ موریـنـۃ: لکڑی کا شہتیر، ٹیڑھی چھت کا شہتیر۔ جمع مورینات۔

موز: ا۔ المَوز واحد مَوزۃ (ن): کیلے کا درخت، کیلا۔ المَوَّاز: کیلے بیچنے والا۔

۲۔ المَوْزَج جمع مَوَازِج و مَوَازِجۃ: موزہ۔

موس: ا۔ مَاسَ یَمُوسُ مَوْسًا الرأسَ: سر مونڈنا۔ الماس (عوام ماز کہتے ہیں) ہیرا۔ رجلٌ ماسٌ: جس پر زجروتوبیخ کوئی اثر نہ کرے۔ المُوسَی جمع مَوَاس و مُوسَیات: اُسترا (مذکر و مونث)۔

۲۔ المُوسِیقَی (ف ج): گانے کا فن۔ بعض گانے کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آلات پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے (یونانی لفظ)
المُوسِیقِی: گانے والا، گویا، موسیقار۔
۳۔ المُوسِلِین سوتی کپڑے کی قسمیں جو باریک اور ملائم ہوتا ہے۔
☼ مُوسَی: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سمك موسی: یورپ کی ایک چپٹی مچھلی۔ مُوسَوِی: حضرت موسیٰ سے متعلق۔ موسوی۔ موسطَرْدَة: رائی، سرسوں، خردل، سرشف، توریا۔ موسکو: روس کے ایک شہر کا نام۔ مُوسِیقَار: مغنی مطرب، نغمہ گر، ماہر موسیقی، موسیقار۔
موش: مَاشَ یَمُوشُ مَوْشًا الکَرْمَ: باقی ماندہ انگور چننا۔ الماش واحد ماشة (ط) اُڑد، گھر کا ادنیٰ قسم کا سامان۔
☼ ماش: پھلی دار یا دانوں والا پودہ جس میں سیاہ خوردنی دانے لگتے ہیں۔ ہندوستانی مٹر، سیم۔
موص: مَاصَ یَمُوصُ مَوْصًا الشَیْءَ: کو ہاتھ سے ملنا...... و مَوَّصَ الثوبَ: کپڑا دھونا۔ المَوْص (مص): بھوسا۔ المُوَاصَة: وہ چیز جس سے کپڑے دھوئے جائیں یا برتن۔
☼ المَوْصِل: موصل شمالی عراق کا ایک شہر۔
موصة: دیکھو مودہ بمعنی فیشن، سٹائل۔
موع: مَوعةُ الشباب: آغاز جوانی۔
موغ: مَاغَ یَمُوغُ مَوغًا و مُوَاغًا السنور: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔
موق: ۱۔ مَاقَ یَمُوقُ مَوقًا و مُوقًا و مَوَاقَةً و مُؤُوقًا الرجلُ: غباوت ملا، بیوقوف ہونا، ہلاک ہونا۔ تَمَاوَقَ: حماقت دکھانا۔ اِنْمَاقَ اِنْمِیَاقًا: بیوقوف ہو جانا، بیوقوفوں جیسا کام کرنا۔ المائق جمع مُوقَی: احمق کہا جاتا ہے: هو احمقُ مائقٌ: وہ بہت احمق ہے۔) ہلاک ہونے والا۔ المُوق (مص) جمع امْواق: غباوت ملی حماقت۔
۲۔ مَاقَ یَمُوقُ مَوقًا المبیعُ: ارزاں ہونا (فروخت کا) ــــ الطعامُ: غلہ مندہ ہونا۔
۳۔ المُوق جمع اَمْوَاق: گرد و غبار (ح): پردار چیونٹی، گوشہ چشم، باریک موزہ پر پہنا جانے والا موٹا موزہ۔
مول: ۱۔ مَالَ یَمُولُ مَولًا و مُؤُولًا: مالدار ہونا، بہت مال والا ہونا ــــ مَوَّلَهُ: کو مال دینا۔ مَانَ یَمَالُ مَولًا و مُؤُولًا: مالدار ہونا، بہت مال والا ہونا۔ مَوَّلَ ہُ: کو مالدار بنانا۔ اَمَالَ اِمَالَةً ہُ: کو مال دینا۔ کہا جاتا ہے: ما اَمْوَلَهُ: وہ کتنا مالدار ہے۔ تَمَوَّلَ المالَ: اپنے لئے مال جمع کرنا ــــ و اِسْتَمَالَ: مال حاصل کرنا، بہت مالدار ہونا۔ المال جمع اَمْوَال: مال، دولت، اہل بادیہ کے نزدیک، بھیڑیں، اونٹ، مویشی بکریاں، (مذکر و مونث) کہا جاتا ہے: هو المال و هی المال۔ خرج الی ماله: وہ اپنی اراضی یا اونٹوں کی طرف نکلا ــــ جمع مالة و مَالُون: بہت مال والا۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ مَالٌ مونث مالة جمع ماله بطور مفرد و مالات: بہت مال والا آدمی۔ المَالِیَّة: دولت اور مال کے متعلق۔ کبھی مال کو بھی کہتے ہیں۔ المَوَّل و المَیِّل: بہت مال والا۔ المُوَیل: مال کی تصغیر۔ تھوڑی دولت۔
۲۔ المال (ع ح): عدد کا مربع۔ المُول: واحد مُولة (ح): مکڑی۔
☼ مَوَّلَ ہ: کو امیر بنانا، کو مالا مال کرنا، تو انگر بنانا، کو روپیہ فراہم کرنا، فنانس کرنا۔ تَمَوَّل: روپیہ فراہم ہونا، روپیہ لگنا، رقم لگنا، امیر ہو جانا، دولتمند ہو جانا۔ اِستَمَال: امیر ہو جانا، دولت مند ہو جانا۔ مال جمع اموال: جائداد، جائداد منقولہ، اثاثہ، خانگی سامان، سامان، دولت، امارت، دولتمندی۔ تمول زمینداری، تعلقہ، مال، روپیہ پیسہ، آمدنی، بافت، املاک، سرمایہ، مالی وسائل، ٹیکس خصوصاً زمین کا ٹیکس، قابل فروخت حق ملکیت۔ اموال: جائداد، اثاثہ، املاک، جائداد منقولہ، خانگی سامان، سامان، مالی وسائل، ٹیکس۔
ذو مال: دولتمند، امیر۔ مال احتیاطی: محفوظ فنڈ۔ مال الاطیان: زمینی ٹیکس۔ مال الحرام: حرام کمائی۔ مال الحکومة: حکومت کے ٹیکس۔ اموال مُقَرَّرة: براہ راست ٹیکس۔ مال نقلی اور مال منقول: جائداد منقولہ۔ مال ثابت: زمینی جائداد، غیر منقولہ جائداد۔ مال غیر مُتَقَوِّم: تجارتی قدر کے بغیر چیز۔ امین المال: خزانچی۔ بیت المال: خزانہ۔ راس مال: سرمایہ۔ مَالِی: نظام زر کے متعلق، مالی، مالیاتی، روپیہ پیسہ، مال یا سرکاری خزانہ سے متعلق، ماہر مالیات، روپیہ لگانے والا، مالی (سال کا)، سرمایہ دار۔ بیت مالی: مالی ادارہ، بنکاری ادارہ۔ تضخُّم مالیٌّ: افراط زر۔ سنة مالیه: مالی سال۔ غرامةٌ مالیة یا عقوبة مالیة: جرمانہ۔ مالِیة: امور متعلقہ نظام زر، روپیہ پیسہ، مال، سرکاری خزانہ، ریاست کی سالانہ مجموعہ آمدنی جو ٹیکسوں وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ (public revenue)۔ محاصل، مالیات، مالی صورت حال، وزارة المالیة: وزارت خزانہ، سررشتہ مال۔ مَوَّال جمع مَوَّالون: روپیہ لگانے والا، سرمایہ دار۔ تَمْوِیل: سرمایہ لگانا، ٹیکس ادا کرنا۔ مُمَوِّل جمع مُمَوِّلون: ٹیکس دینے والا، محصول دینے والا۔ مُمَوَّل: صاحب جائداد، دولتمند، امیر۔ مُتَمَوِّل: امیر، دولتمند، خوشحال، آسودہ حال، سرمایہ لگانے والا، سرمایہ دار۔
مَوَّال جمع مَوَاوِیل: عام بول چال میں اور اکثر و بیشتر بانسری کے ساتھ گائی جانے والی نظم۔ مَوَالیا: بمعنی مَوَّال۔
موم: ۱۔ مِیمَ مَوْمًا الرجلُ: برسام کی بیماری والا ہونا، شدید قسم کی چیچک میں مبتلا ہونا کہ سارا جسم یکسر زخم بن جائے۔ صفت مفعولی مَمُوم۔ المُوم: (طب) برسام یا شدید قسم کی چیچک۔
۲۔ مَوَّمَ مِیمًا: میم (م) لکھنا۔
۳۔ المُوم: موم۔ المَوْماء و المَوْماة جمع المَوَامِی: وسیع بیابان یا بے آب بیابان۔ المُومِیَاء: ایک دوا۔ قدیم مصریوں کے طریق پر حنوط لگائے ہوئے اجسام۔
☼ مُومِیاء و مُومِیة جمع مُومِیَات: مَمّی، حنوط شدہ لاش، مسالہ لگا کر محفوظ رکھی ہوئی لاش۔
مون: ۱۔ مَانَ یَمُونُ مَونًا و مَؤُونَةً و مَوَّنَ: کسی کا خرچ برداشت کرنا صفت مائِن تَمَوَّنَ: اشیائے خوردنی جمع کرنا، بال بچوں پر زیادہ خرچ کرنا۔ المُؤُونَة جمع مُوَن: جمع شدہ اشیاء خوردنی۔ بیتُ المُونَة: کھانے پینے کی اشیاء جیسے گھی تیل وغیرہ جمع کرنے کا کمرہ، اسٹور ہاؤس۔ المَوَّان: ذخیرہ رکھنے والا۔ ذخیرہ فراہم کرنے والا۔
۲۔ مَانَ یَمُونُ مَونًا و مُؤْنَةَ الارضَ: کھیتی کے لئے زمین جوتنا۔
☼ مَانَ مَونًا و مُؤْنَةً و مَوَّنَ ہ: کو اشیائے خوردنی مہیا کرنا، کو ذخیرہ فراہم کرنا ــــ ہ/ ب: کو کچھ فراہم کرنا۔ تَمَوَّن: اشیائے خورد و نوش کا ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، گودام میں رکھنا۔ مُؤْنَة: اشیاء خورد و نوش۔ تَمْوِین: خوراک کی بہم رسانی، ذخیرہ کی فراہمی، بہم رسانی، لبریزی۔
☼ مَوَانِی: میناء کی جمع دیکھو مینا۔
مُونِیخ: میونخ Munich (ایک شہر کا نام)
موہ: ۱۔ مَاهَ یَمُوهُ مَوهًا الرجلَ: کو پانی پلانا ــــ الشیءَ بالشیءِ: کو ملانا، خلط ملط کرنا ــــ یَمُوهُ و یَمَاهُ مَوهًا و مَاهَةً و مُؤُوهًا و مُؤُوهَات البئرُ: کنویں کا زیادہ پانی والا ہونا ــــ ت السفینةُ: کشتی میں پانی داخل ہو جانا۔ مَوَّهَ المکانُ: جگہ کا پانی والی ہونا ــــ القِدرَ: ہانڈی میں بہت پانی ڈالنا ــــ الشیءَ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نماء الذهب او الفضة و نحوهما: کوگلٹ کرنا یا اس پر سونے چاندی وغیرہ کا پانی چڑھانا۔ ــــ علیه الامرَ او الخبرَ: کوخلاف واقعہ جھوٹا بیان سنانا۔ أَمَاهُ إِمَاهَةً و أَمْوَهَ إِمْوَاهاً الرجلَ: کو پانی پلانا۔ ــ الحوضَ حوض میں پانی جمع کرنا۔ ــ الدواۃَ: دوات میں پانی ڈالنا۔ ــــ البئرَ: کنواں کھود کر پانی نکالنا ــــ السکینَ چھری پر پانی چڑھانا۔ ــــ الشيءَ کوملانا۔ ــــ الشيءُ: ملنا۔ ــــ ت السماءُ آسمان کا بہت پانی برسانا۔ ــــ ت الارضُ: زمین کا بہت پانی والا ہونا۔ تَمَوَّهَ: گلٹ ہونا ــــ العنبُ: انگور میں رس پڑ کر پکنے کے قریب ہونا۔ ــــ المکانُ بالبقل: جگہ کا سبزہ زار ہونا۔ المَاء: پانی۔ (اصل مَوَهٌ ہے) تصفیر مُوَیة ہے۔ نسبت کے لئے مَائِي و مَاوِيّ و مَاهِي جمع مِيَاه و اَمْوَاه۔ ماءُ الوَرْدِ و ماء الزهرِ و نحوهما: گلاب وغیرہ کا پانی جو عرق کی شکل میں کھینچا جائے۔ مَاءُ الوَجْه او ماء الشباب: چہرے کی رونق، جوانی کی تازگی۔ ماءُ السیف: تلوار کی آب وتاب۔ بناتُ الماء: پانی سے مانوس یا آبی پرندے۔ مفرد: ابن الماء۔ الماء الازرق (طب): موتیابند۔ المَاه: پانی۔ نسبت کے لئے مَاهِي: کہا جاتا ہے: رَجُلٌ ماهُ الفؤاد: بزدل اور بیوقوف آدمی۔ الماءَة: پانی تصغیر مُوَیْهَة۔ المَاهَة (طب): چیچک۔ بئرٌ ماهَةٌ: بہت پانی والا کنواں۔ المائية من الشجر: رس۔ سیال جس سے درخت کو غذا حاصل ہو۔ المَاهِيَة جمع مَاهِيَات: المَاهِي کا مؤنث۔ المَاوِيَّة جمع مَاوِيّ: آئینہ۔ ــ من الشجر: سیال جس سے درخت کو غذاء حاصل ہو۔ المُوهَة و المُوَاهَة من الوجه: چہرہ کی رونق اور حسن۔ رکیَّة مَيِّهَةٌ: بہت پانی والا کنواں۔ الأَمْوَهُ: اسم تفضیل: زیادہ پانی والا۔ کہا جاتا ہے: البئر هذه السنةَ اَمْوَهُ مَمَا کانت: کنواں اس سال پہلے سالوں سے زیادہ پانی والا ہے۔ المُمَوَّهة (مفع): ناخنہ دار آنکھ۔ التَمْوِیْه (اع): کیموفلاز: جنگی سامان کو دشمن کی نظروں سے چھپانے کے لئے ان کی ہیئت کی تبدیلی (camouflage)۔

۲۔ المَاهِيَة جمع مَاهيات: ماہانہ تنخواہ۔ مَاهِيَةُ الشيء: چیز کی حقیقت۔

○ مَاهَ ـ مَوْهًا ھ ب: کو سے ملانا، خلط ملط کرنا۔ ــ ـ مَوْهًا و مُؤُوهًا و ماهَةً: بہت پانی والا ہونا۔ مَوَّهَ: بہت پانی والا ہونا، ــ ھ: میں پانی ڈالنا۔ ھ: میں پانی کی آمیزش کرنا ــــ ھ: کو پتلا کرنا، کو پانی ملا کر ہلکا کرنا، نرم کرنا، میں کھوٹ ڈالنا، ملاوٹ کرنا۔ ــھ/علی: میں جعلسازی کرنا۔ ــ ھ: کو خلاف واقعہ بیان کرنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے متعلق غلط تصور پیش کرنا، غلط بیانی کرنا۔ ــ ب علی: کے سامنے تصنع کرنا، کا کے سامنے جھوٹا اظہار کرنا ــــ ھ: کو کیموفلاز کرنا، چھپانا، کی ہیئت بدل ڈالنا، کو دشمن کی نظروں سے چھپانا، ــــ ھ ب: (نکمی دھات) پر (سونے یا چاندی) کا ملمع کرنا۔ اَمْوَهُ ھ: میں پانی ملانا۔ ماء جمع میاه و امواه: پانی، سیال، مائع، رس، عرق۔ کالماء الجاری: روانی سے، اچھی طرح، ٹھیک سے، کسی خرابی کے بغیر۔ ماء ابیض: موتیا، موتیابند۔ ماء الزهر: سنترے مالٹے وغیرہ کے پھولوں کا عرق۔ ماء عَذب: تازہ پانی، نوشیدنی پانی۔ ماء غازی: جمع میاه غازیه: معدنی پانی۔ ماء الکولونیا: Eau de cologne۔ یوڈی کلون: ایک خوشبودار عرق۔ ماء الوجه: عزت، پاس، لحاظ، شرافت، خودداری۔ اراق ماء وجهه: عزت قربان کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، کے لئے موجب رسوائی ہونا۔ بذل ماء وجهه: بمعنی اراق ماء وجهه: ماء الورد: عرق گلاب۔ میاهٌ إقلیمیة: علاقائی پانی۔ میاه الامطار: بارش کا پانی۔ میاهٌ جوفیة: زمین کا پانی۔ میاه ساحلیه: ساحلی پانی۔ بنو ماء السماء: عرب لوگ۔ کاس التمویه: لبریز پیالہ۔ تَمْوِیْهِي: جھوٹا، مصنوعی، بناوٹی، نقلی جعلی، فرضی، جھوٹ موٹ۔ غَارَة تمویهة: نقلی حملہ، دھوکے کا داؤ۔

میت: مَاتَ یَمِیتُ مِیتاً: مات یموت موتًا کی طرح بمعنی مرنا۔

میث: ماثَ یَمِیثُ مِیثاً الشيءَ فی الماء: کو پانی میں حل کرنا۔ مَیَّثَ الشيء فی الماء: کو پانی میں حل کرنا ــــ الرجلَ: کو ذلیل کرنا۔ تَمَيَّثَ الشيءُ في الماء: چیز کا پانی میں حل ہونا ــ الرجلُ: ذلیل ہونا ــــ ت الارضُ: زمین کا بارش سے نرم ہونا۔ ــ ت الحرارةُ: گرمی ٹھنڈی ہونا۔ اِنْمَاثَ اِنْمِیَاثاً الشيءُ في الماء: چیز کے اجزاء کا پانی میں حل ہونا۔ اِمْتَاثَ الرجلُ: زندگی کا آرام پانا ــــ الأَقِطَ: پنیر کو پانی میں بھگو کر کھانا ــــ الشيءَ في الماء: کو پانی میں حل کرنا۔ المَیِّث: نرم۔ کہا جاتا ہے نشيء و عیش مَیِّثٌ: نرم چیز، خوشگوار زندگی۔ ارضٌ مَیْثاء: نرم زمین۔ المُسْتَمِیث: انڈے کی سفیدی۔

میج: مَاجَ یَمِیجُ مَیْجًا الشيءُ: ملنا، خلط ملط ہونا۔

میح: ا۔ مَاحَ یَمِیحُ مَیحاً و مَیحةً: پانی سے چلو بھرنا۔ ــ اصحابَه: ساتھیوں کے لئے چلو چلو پانی لینا...... الرجُلَ: کو نفع دینا۔ ــــ هُ عند الامیر: کی حاکم سے سفارش کرنا۔ کہا جاتا ہے مِحْنِي عند الامیر: حاکم سے میری سفارش کرو ــ مَیحاً و مِیَاحَةً هُ: کو دینا۔ اِمْتَاحَ الماءَ: پانی سے چلو بھرنا ــ الرجُلَ: سے بخشش طلب کرنا۔ هُ الحرُّ او العملُ: کو گرمی یا کام کا عرق آلود کرنا۔ اِسْتَمَاحَ اِسْتِمَاحَةً هُ: سے بخشش مانگنا، یا سفارش کرنے کی درخواست کرنا۔ المَائِح جمع مَاحَة و المَیَّاح: چلو سے پانی پلانے کی درخواست کرنے والا۔

۲۔ مَاحَ یَمِیحُ مَیحًا و مَیحُوحَة الرجُلُ: نخرے اور تکبر سے چلنا۔ ــــ ت الریحُ الشجرةَ: ہوا کا درخت کو جھکا دینا۔ مَیَّحَ تَمْیِیْحًا الغصنُ او السکرانُ: ٹہنی کا ہلنا، مخمور کا ڈگمگانا۔ مَایَحَ مُمَایحةً هُ: سے خلط ملط ہونا۔ تَمَیَّحَ: نازو انداز سے چلنا، دائیں بائیں جھکنا۔ تَمَایحَ: ہلنا، ڈگمگانا۔

○ مَاحَ ـ مَیحًا و مَیحُوحَة: اکڑ کر چلنا، مصنوعی شان وشوکت کے ساتھ چلنا، مٹکنا، مٹکتے ہوئے چلنا، اٹھلا کر چلنا، بطخ کی چال چلنا۔ تَمَیَّح و تَمَایَحَ: ہلنا، ڈگمگانا، لڑکھڑانا، ہلنا، ڈولنا، جھولنا، لہرانا۔ اِسْتَمَاحَ ہ ہ سے اعانت نوازش کرم کی درخواست کرنا ــ ہ کی درخواست کرنا۔ اِسْتَمَاحَ عُذرا من: سے کے لئے معذرت چاہنا۔

مید: ا۔ مَاءَ یَمِیدُ مَیْداً و مَیَدَاناً: حرکت کرنا، ہلنا، کانپنا، جھوک لگانا، مڑنا، انحراف کرنا۔ کہا جاتا ہے: مادت به الارضُ: زمین اس کے ساتھ گھوم گئی ــ الغُصنُ: شاخ کا جھکنا، ہلنا ــ الرجُلُ: تکبر اور ناز سے چلنا، کا سر چکرانا۔ تَمَیَّدَتِ المراۃ: عورت کا ناز سے چلنا۔ تَمَایَدَ: ہلتے ہوئے لڑکھڑانا۔ المائِد جمع مَیْدَی: جھکنے والا، جس کا سر چکرائے۔ غصنٌ مائِد: جھکنے والی شاخ۔ المائِدة جمع مَوَائِد و مائِدات: مَائِد کا مؤنث۔ زمین کا دائرہ۔ المَیْدَة: مَادَ کا اسم مرۃ۔ المَیَّاد مؤنث مَیَّادَة: بہت ہلنے اور لڑکھڑانے والا۔ المَیْدان و المِیْدان جمع مَیَادِین: کھیل کا میدان۔ گھوڑ دوڑ کا میدان۔ المَیُود: بہت حرکت کرنے والا۔ غُصُونٌ مُیَّدٌ: جھکنے والی یا جھکی ہوئی شاخیں۔

۲۔ مَادَ یَمِیدُ مَیْداً و مَیَداناً الرجُلَ: کی زیارت کرنا، کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، پر احسان کرنا۔ اِمْتَاد اِمْتِیَادًا: بخشش مانگنا۔ کہا جاتا ہے اِمْتَادُوْهُ فَمادَهم:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

انہوں نے اس سے بخشش مانگی تو اس نے انہیں بخشش دی۔ المَائِدة جمع مَوَائِد و مَائِدات: دسترخوان، کھانا، کھانے کا کمرہ۔ المَیْدَة: کھانا، دسترخوان۔ المُمْتَاد: بخشش مانگنے والا۔

۳۔ مَیدَ: بَیدَ کے معنی میں نادر ہے۔ بوجہ، اس لئے۔ مَیْدَی: کے لئے۔ کہا جاتا ہے فَعَلَهُ مَیدَی ذلك: اس نے یہ اس کی وجہ سے کیا۔ مقابل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: داری بمَیْدَی داره: میرا گھر اسکے گھر کے مقابل ہے۔ مِیْداء الشیء: قیاس پیمانہ، اندازہ مقدار۔ کہا جاتا ہے: هذا مِیداءُ ذاك و بِمِیْدَائِه: یہ اس کے مقابل ہے۔

مَادَ ـ مَیْداً و مَیَدَاناً: ہلنا، الٹ ہونا، ہلایا جانا، دھکا لگنا، جھولنا، ڈگمگانا، ڈولنا، مڑنا، دوران سر میں مبتلا ہونا، کا سر چکرانا، کا سر گھومنا۔ مَادَ ب: کو زور سے ہلانا۔ ـ سَادَ: آگے پیچھے جھولنا، ڈگمگانا، ایک طرف سے دوسری طرف ہلنا، ڈولنا، جھولنا، لہرانا۔ مِیْدَة جمع مِیَد: دروازے یا کھڑکی کے اوپر کی چوکھٹ سردل۔ لنٹل۔ مِیْداء: پیمانہ، مقدار، لمبائی، فاصلہ۔ مِیداءَ: کے سامنے، کے مقابل، کے سامنے۔ مَیدان و مِیْدَان جمع مَیادین: مربع، کھلی جگہ، کھلا قطعہ یا خطہ، میدان، اکھاڑا، دنگل، میدان جنگ، مقابلے کا علاقہ، لڑائی کا علاقہ، گھڑ دوڑ کا میدان، گھڑ دوڑ کا محصور راستہ، کھیل کا میدان، میدان، خیال و عمل کا میدان، لائن، دائرہ عمل۔ مَیْدَانُ التدریب: فوجی تربیت کا میدان، ملٹری ٹریننگ سنٹر۔ میدانُ الحرب: میدان جنگ۔ میدان السباق: گھڑ دوڑ کے مقابلہ کا میدان۔ میدان العمل: میدان عمل۔ میدان القتال: میدان جنگ۔ خرج من میدان العمل: بے روزگار ہونا۔ ظهر فی المیدان: منظر پر نمودار ہونا۔ فی میدان الشرف: نیک نامی کے میدان پر۔ مدافع المیدان: میدانی توپیں۔ مائِد جمع مَیْدَی: سرگرانی، قے متلی، بحری سفر کی بیماری میں مبتلا۔ مائِدہ جمع مائدات و مَوَائد: میز۔ مائدَةُ التشریح: آپریشن کی میز۔ مائدَة الزینة: سنگار میز۔ مَائِدَةُ السُّفرَة: کھانے کی میز۔ مَذالِیُون: بڑا تمغہ۔

میر ۔ ۱۔ مَارَ یَمِیرُ مَیراً و اَمَارَ عیالَهُ: عیال کے لئے کھانا اور اشیاء خورد و نوش لانا۔ مَایَرَ مُمَایَرَةً ہُ: کے پاس خوراک لانا۔ اِمْتَار لعیاله او لنفسه: اپنے عیال کے لئے یا اپنے لئے خوراک اور اشیاء خوردنی جمع کرنا۔ المائر جمع مُیَّار و مَیَّارَة فا: خوراک لانے والا۔ المَیْر (مص): خوراک کھانا۔ کہا جاتا ہے: ماعندهم خیرٌ ولامَیر: ان کے پاس نہ تو دنیا ہے نہ آخرت۔ المِیرَة جمع مِیَر: ذخیرہ کی ہوئی خوراک۔ المَیَّار: ذخیرہ کی ہوئی خوراک لانے والا۔

۲۔ مَارَ یَمِیرُ مَیْراً الصوف: اون دھنا...... الدواء و نحوهُ: دوا وغیرہ پگھلانا۔ اَمَارَ الصوفَ: اون دھنا۔ ـــ الدواء و نحوَهُ: دواء پگھلانا۔ ـــ اوداجَه: کی رگیں کاٹنا۔ المُوَارَة: دھنے میں اون کا گرا ہوا حصہ۔

۳۔ مَایَرَ مُمَایَرَةً ہُ: کی نقل اُتارنا۔

۴۔ مَایَرَ مُمَایَرَةً ہُ: کی مخالفت کرنا۔ تَمَایَرَ تَمایُراً ما بین القوم: قوم میں فساد پڑنا۔

مَارَ ـ مَیْراً و اَمَارَ عیاله: اپنے کنبہ کا خرچ چلانا۔ مِیْرَة جمع مِیَر: اشیاء خوردنی، رسد، ذخیرہ، سٹور۔ مَیَّار: بہم رساں، خانساماں یا ہوٹل کا مالک یا ناظم، اشیاء خوردنی بہم پہنچانے والا ٹھیکیدار۔ مِیرِی: (امیری) پبلک، حکومتی، حکومت یا ریاست کا، مالی۔ المِیری: حکومت، خزانہ، خزانہ عامرہ۔ مالُ المِیری: گورنمنٹ کے ٹیکس۔ اَملاكُ المِیری: حکومت کی زمین۔ میر آلای: کرنل colonel۔ مِیرلِواء: بریگیڈیر جنرل۔ مِیر جمع اَمْیار: میئر (mayor) میر بلدیہ، صدر بلدیہ۔ مِیْرُون: متبرک تیل، روغن جو مذہبی رسموں میں ملا جاتا ہے۔

میز ۔ ۱۔ مَازَ یَمِیزُ مَیْزًا الشیءَ: کو علیحدہ کرنا، جدا کرنا، کو دوسری چیزوں پر ترجیح دینا ـــ فلانٌ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ مَیَّزَ و اَمَازَ الشیءَ: کو دوسری چیز سے علیحدہ کرنا، جدا کرنا، کو دوسری چیزوں پر ترجیح دینا۔ تَمَیَّزَ: دوسروں سے جدا ہونا ـــ فلانٌ من الغیظ: غصے سے پھٹ پڑنا۔ تَمَایَزَ القومُ: بچھڑ جانا، مختلف گروہوں میں بٹ جانا، دھڑے بند ہونا، طرف داری کرنا، جانبداری کرنا، متحد ہونا، حریف ہونا، رقیب ہونا، مقابلہ میں حصہ لینا، مقابلہ کرنا۔ اِنْمَازَ اِنمِیَازاً: جدا ہونا۔ اِمْتَازَ اِمْتِیَازاً: دوسروں سے علیحدہ ہونا، جدا ہونا ـــ القومُ: ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ اِسْتَمازَ: دوسروں سے علیحدہ ہونا، پرے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ المَیِّز و المَیْز: مضبوط پٹھوں والا۔ الاِمْتِیاز (مص) جمع امتیازات: پروانہ، سند، لائسنس، حق۔ التَّمْیِیز: مَیَّزَ کا مصدر۔ ایک قوت نفسانی جس سے معانی کا استنباط ہو۔ نحو کا ایک باب۔ سِنّ التمییز: سمجھ کی عمر، برائی بھلائی پہچاننے کی عمر۔ مُمَیِّز السعادة: مساوات کا مُمیز۔

۲۔ المیزاب: پرنالہ جمع میازیب۔ نالی، گندہ نالہ، بدرو۔ اِنفَتَحَتْ میازیبُ السماء: آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔

مَازَ ـ مَیْزاً بین: دو چیزوں کو علیحدہ کرنا، علیحدہ رکھنا۔ ـــ ہُ: کو ممتاز کرنا، کی عزت کرنا، کا احترام کرنا، کو اعزاز عطا کرنا، سے ہمدردی کرنا۔ مَیَّزَ ہ: کو اعزاز عطا کرنا۔ ـــ ہ عن/علی: کو پر ممتاز کرنا، کی سے زیادہ تعریف کرنا، کا سے زیادہ احترام کرنا، کو سے زیادہ پسند کرنا ـــ ہ/ہ عن: میں سے فرق کرنا، امتیاز کرنا، کو سے الگ کرنا، علیحدہ کرنا، سے نمایاں کرنا ـــ ہ/ہ علی: کو پر ترجیح دینا۔...... ہ/ہ: کو علیحدہ کرنا، جدا کرنا، کو چن لینا،...... ہ: کو خصوصی حق یا مراعات دینا، کو استحقاق بخشنا۔ ـــ ہ/ہ/عن/من: سے فرق کرنا، کو سے علیحدہ کرنا، جدا کرنا، کا سے فرق کرنا ـــ بین: دو چیزوں کو علیحدہ کرنا، جدا کرنا، ایک کو دوسری چیز سے علیحدہ کرنا، جدا کرنا۔ اَمَازَ ہ: میں امتیاز قائم کرنا، پر نشان کرنا، کو علامت بنانا، کو ترجیح دینا۔ تَمَیَّزَ: علیحدہ ہونا، جدا ہونا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا، فرق ہونا، قابل ترجیح ہونا، احترام کیا جانا، مہربانی کیا جانا۔ تَمَیَّزَ غیظًا: غصے سے پھٹ پڑنا۔ تَمَایَزَ فی: میں نمایاں خصوصیت رکھنا، مختلف ہونا۔ اِمْتَازَ ب/فی/عن/علی من: سے میں پر کے مقابلہ میں نمایاں و ممتاز ہونا، ـــ ب: سے متصف ہونا، سے نمایاں بنایا جانا ـــ عن/علی: پر سبقت لیجانا، بازی لیجانا، سے بڑھ جانا، سے بہتر کام کرنا ـــ علی: پر فوقیت رکھنا، پر ترجیح رکھنا، پر ترجیح دیا جانا، کو زیادہ پسند کیا جانا ـــ من/علی: فی/ب: سے میں مختلف ہونا۔ مَیْز: امتیاز، تمیز، فرق، ہمدردی کرنا، ترجیح، برتری، سرفرازی۔ مِیزَة: انفرادیت، خاصہ، خاصیت، امتیازی و نمایاں خصوصیت، مخصوص نشان، لازمی خاصہ، خصوصیت، وصف، خصوصی اختیار۔ اَمْیَز علی: سے بہتر۔ محکمة التمییز: عدالت تنسیخ۔ من غیر تمییز: نادانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر، ذہن میں کوئی معین مقصد کے بغیر۔ اخرجه عن دائرة التمییز: کو اس کے واضح فیصلہ سے محروم کرنا، کا ہوش سلب کر لیا۔ امتیاز جمع امتیازات: امتیاز، عزت (کا نشان)، فوقیت، فائدہ، حق، استحقاق، فرق، شعور، خاص حق، امتیازی حق، رعایت، مراعات، پیٹنٹ (patent) پرمٹ، لائسنس، حق شہریت، خصوصی اختیار، اولیت کا حق۔ الامتیازات الاجنبیة (مغربی طاقتوں کی مشرق میں) مخصوص مراعات۔ الامتیازات الدبلوماسیة

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سفارتی مراعات۔صاحب الامتیاز: مراعات کا حامل۔اخبار کا ذمہ دار طابع۔درجة ممتازة: خاص درجہ۔دین ممتازہ: ترجیحی قرضے۔عدد ممتار: کسی رسالے وغیرہ کا خاص شمارہ۔مِیزَانِین: گیلری۔

میس: ا۔ مَاسَ یَمِیسُ مَیسًا و مَیَسانًا و تَمَیَّسَ الرجُلُ: نازونخرہ سے چلنا۔صفت مائِس و مَیَّاس و مَیسان و مَیُوس۔ مَیَّسَ الثوبَ: کپڑے کا دامن بنانا۔المَیس: کجاوہ۔دو بیلوں کے درمیان کی لمبی لکڑی۔المَیَّاس (ح): شیر(ح)۔بھیڑیا۔ المَیسان جمع مَیاسِین: بہت تیز چمکنے والا ستار

۲۔المَیس: ایک قسم کی کشمش۔واحد مَیسة (ن): ایک قسم کا درخت۔اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔لیکن پسند نہیں کیا جاتا، آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔

○ مَاسَ: ادھر ادھر حرکت کرنا، دائیں بائیں ہلنا۔تکبر اور لچک سے چلنا۔تَمَیَّسَ: نازونخرہ سے چلنا۔ مَیس: تکبر کی چال، متکبرانہ، ڈھنگ یا طرز عمل۔مِیس جمع اَمیاس: ہدف، نشانہ۔مَیَّاس: متکبرانہ چال سے چلنے والا، اکڑ کر چلنے والا۔مَیس الضباط: فوجی افسروں کا طعام خانہ(officers mess)۔

میش: مَاشَ یَمِیشُ مَیشًا الشیءَ بالشیء: ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔ــــ الناقةَ: اونٹنی کا نصف دودھ دوہنا۔ــــ الخبرَ: کچھ خبر بتانا، کچھ چھپانا۔کہا جاتا ہے۔ماشوا الارضَ مَیشةً: وہ زمین سے گذرے۔ الماش: اس کیلئے دیکھو م و ش۔

میط: ا۔مَاطَ یَمِیطُ مَیطًا و مَیَاطانًا عن کذا: سے دور ہونا، ہٹنا۔کہا جاتا ہے:مِط عَنّا یا فلانُ: اے فلاں شخص ہم سے دور ہو جا۔ــــ ہٗ و مَاطَ به: کو ہٹانا دور کرنا، لیجانا۔ــــ الرجُلُ: ظلم کرنا۔کہا جاتا ہے:مَاطَ عَلَی فی حکمه: اس نے اپنے فیصلہ میں مجھ پر ظلم کیا۔ــــ فلانًا: کو ڈانٹنا، دور کرنا۔ــــ الشیءُ: جانا۔مَیَّطَ تَمیِیطًا بینهما: دو باتوں یا معاملوں میں پس و پیش کرنا، ہچکچانا، تامل کرنا۔مَایَطَ بین الشیئین: ترجیح دینا۔أمَاطَ إماطةً عن کذا: سے ہٹنا، دور ہونا۔ــــ ہٗ: کو ہٹانا، دور کرنا، لے جانا۔تَمَایط القومُ: قوم کے درمیان فساد واقع ہونا۔ایک دوسرے سے دور ہونا۔المِیاط: ڈانٹ، دور کرنا، جھکاؤ، ادبار، تباعد۔اُصبَحوا فی هباط و مِیاطٍ: وہ آنے جانے اور گھبراہٹ میں ہیں:المَیَّاط: بازی گر، بیکار، ناکارہ۔

۲۔کہا جاتا ہے:ماعنده مَیط: اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔اِمتَلَا حتی لا یجد مَیطًا: وہ بھر گیا یہاں تک کچھ اور نہ پایا۔امرٌ ذو مَیطٍ: سخت بات یا معاملہ۔

○ اَماط اللثامَ عن: کو افشا کرنا، ظاہر کرنا، فاش کرنا، کا انکشاف کرنا، منظر عام پر لانا۔

میع: ا۔مَاعَ یَمِیعُ مَیعًا الشیءُ: زمین پر پھیل کر بہنا۔ــــت ناصیةُ الفرس: گھوڑے کے پیشانی کے بالوں کا لمبا ہونا۔ــــ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔ــــ و تَمَیَّعَ و تَمَیُّعًا و انمَاعَ اِنمِیَاعًا السمنُ: گھی کا پگھل کر بہنا۔صفت مائع مؤنث مائِعة: کہا جاتا ہے:الفضّة تَتَمَیَّعُ فی البوتقة: چاندی کٹھالی میں بہتی ہے۔مَیَّعَ تَمییعًا الغازَ: گیس کو سیال صورت میں بدلنا۔أمَاعَ اِمَاعًا و إمَاعَةً الشیءَ: کو بہانا۔المائع: بہنے والی چیز سیال۔ المائِعة جمع مَوَائِع: مائع کا مؤنث: گھوڑے کی پیشانی کے بال، خوشبودار گوند۔المَیعة: زمین پر گرائی چیز کا بہنا، خوشبودار گوند۔المَیعة السائِلة: لوبان، ایک خوبصورت درخت جو دوا سازی میں استعمال ہوتا ہے۔مَیعَةُ الشیء: اول شیء، اصل شیء۔مَیعَةُ الشباب: آغاز جوانی۔میعة الفرس: گھوڑے کی دوڑ کا شروع۔کہا جاتا ہے:الفرس فی میعة جَریِهِ: گھوڑا دوڑ کے آغاز میں ہے۔

۲۔المائع: احمق۔

○ مَاعَ۔مَیعًا: بہنا، پھیلنا، پگھلنا، حل ہونا۔مَیَّعَ ہٗ: کو نرم کرنا، پتلا کرنا، پانی کی طرح کرنا۔اَمَاعَ ہٗ: کو پگھلانا، پانی کی طرح کرنا۔تَمَیَّعَ و اِنمَاع: پگھلنا، حل ہونا۔مَیع: بہنا، رواں ہونا، روانی، بہاؤ، سیال ہونا، پتلا پن۔مَیعَة: خوشبودار گوند، آغاز جوانی، ناز برداری، فرمانبرداری، ناپائداری، تزلزل۔مُیُوعَة: سیال حالت، ناپائداری، تزلزل۔اِمَاعة: پگھلانا، پانی کی طرح کرنا۔تَمیُّع: پگھلنا، ترقیق۔مائع: سیال، مائع، نصف سیال، مبہم غیر واضح (عبارت): غیر فیصلہ شدہ، متذبذب، زیر سماعت، غیر متعین (صورت حال)۔

○ میکا: ابرق۔میکانی: مکینیکل، مشینی، کلدار، میکانیکا: مکینکس mechenics۔میکانیکی: خودکار مشینی، کلدار، مشین دار، کاریگر۔میکروب جمع میکروبات: جرثومہ۔میکروفون جمع میکروفونات: آواز رساں michrophone۔

میل: ا۔مَالَ یمیلُ مَیلاً و تَمیَالا و مَیَلانًا و مَیلُولةً و مَمَالاً و مَمِیلاً اِلی المکان: جگہ کی طرف مڑنا، ــــ الی الشیء او الشخص: سے رغبت کرنا، محبت کرنا۔عن الطریق: راستہ سے تجاوز کرنا، راستہ کو چھوڑ دینا۔ــ الحائطُ: دیوار کا جھکنا۔الحاکم فی حکمه: حاکم کا فیصلہ میں ظلم و ناانصافی سے کام لینا۔ــ علیهم الدهرُ: پر زمانہ کا مصائب و حوادث لانا۔ــ بفلان: پر غالب آنا۔ــ الشیءَ: کو جھکانا۔کہا جاتا ہے فلانٌ لا تمیل علیه المِربَعَةُ: وہ قوی ہے۔ــــ مُیُولاتَ الشمسُ: سورج کا ڈھلنا اور ڈوبنے کے قریب ہونا۔ــــ النهارُ او اللیلُ: دن یا رات کا ختم ہونے کے قریب ہونا۔مال بنا الطریقُ: راستہ ہمارے لئے لمبا ہو گیا۔مَیِلَ۔مَیَلاً: پیدائشی کج ہونا۔صفت أمیل۔مَیَّلَ تمییلاً الشیءَ: کو جھکانا۔ــــ فی الامر: میں شک کرنا۔ــــ بین الامرین: دو کاموں میں پس و پیش کرنا۔مثلاً کہتے ہیں قَرَّب له طعاما مِیل فیه لقلته: اس نے اسے کھانا پیش کیا تو وہ اس کی کمی کی وجہ سے متردد ہوا کہ اسے کھائے یا چھوڑے (عوام مَیَّلَ کو مال کے معنی میں استعمال کرتے ہیں)۔مَایَل مُمَایَلَةً ہٗ: پر حملہ کرنا، پر جارحیت کرنا، کی طرف مائل ہونا، سے محبت کرنا۔کہا جاتا ہے:مَایَلَنا الملكُ فَمایَلنَا ہٗ: بادشاہ نے ہم پر جارحیت کی تو ہم نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ــــ ہٗ: کی مدد کرنا۔ــــ بین الشیئین: کے مابین ترجیح دینا۔أمَالَ إمالةً الشیءَ: کو جھکانا۔ــــ یدَہ بالفرس: گھوڑے کی لگام ڈھیلی کرنا۔ــ القاریءُ: قاری کا پڑھنے میں امالہ کرنا۔ــ ت المرأة: عورت کا نقاب اتارنا۔تَمَیَّلَ تَمَایُلاً فی مشیه: نازونخرے سے چلنا۔تَمایَل فی مشیه: نازونخرے سے چلنا۔ــــ الجُلُّ عن الفرس: جھول کا گھوڑے سے ہٹ جانا۔کہا جاتا ہے: بین القوم تمَایُلٌ: لوگوں میں اختلاف و فساد ہے۔اِستَمَالَ اِستِمَالةً: مائل ہونا۔کہا جاتا ہے: مَیَّلَهُ فاستمال: اس نے اسے مائل کیا تو وہ مائل ہو گیا۔ــــ فلانًا و بقلبه: کا دل جیتنا، کی ہمدردی حاصل کرنا، تائید حاصل کرنا، کو طرف دار بنانا، ملا لینا، منانا، راضی کرنا۔ــــ ما فی الوعاء: جو کچھ برتن میں ہو اس کو لے لینا......الطعامَ و نحوہٗ: کھانے وغیرہ کو دونوں کف یا ذراع سے ناپنا۔المائِل جمع مُیَّل و مالَة مؤنث مائِلَة جمع مائلات و مَوَائِل (فا): المَیَّال م مَیَّالة: بہت جھکنے والا۔الإمَالة (مصدر) امَال فی القراءة: فتح کو کسرہ کی طرف اور الف کو یاء کی جانب جھکانا۔الأمیَل م مَیلاء: اسم تفضیل، زیادہ مائل، کج عمارت وغیرہ، زین سے ایک طرف کو جھکنے والا، بزدل۔المَیلاء: اَمیَل کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مؤنث: ریت کا ٹیلہ۔ شجرۃ میلاء: گنجان درخت

۲۔ المِیل جمع اَمیال و اُمْیُل و مُیُول: سرمہ لگانے کی سلائی۔ جراح کا زخم ناپنے کا آلہ۔ میل کا پتھر، نظر کی حد، چار ہزار ہاتھ کا فاصلہ۔ المیل الهاشمی: ایک ہزار ہاتھ کا فاصلہ۔ المِیلَۃ جمع مِیَل: وقت زمانہ۔ کہا جاتا ہے: الدهرِ مَیلٌ: زمانہ گردشوں والا ہے۔

ⓒ اِستَمَالَ د. کو جیتنا۔ القلوبَ: دلوں کو جیتنا۔ ہ: کو اپنی طرف کھینچنا، کو ہمنوا بنا لینا، کو ساتھ ملا لینا، کی محبت جیتنا۔ مَیل جمع مُیُول و اَمْیَال: رغبت، میلان، جھکاؤ، موڑنا، پھیرنا، موڑ، انحراف، ترچھاپن، کجی، ڈھلوان، ڈھلان ـــ الی: کی محبت، چاہ، ـــ سے لگاؤ، ـــ سے ہمدردی، خواہش، آرزو، تمنا، اشتیاق، اِلی: کی طرف میلان، رجحان، جھکاؤ۔

مین: ا۔ مَانَ یَمِینُ مَینًا: جھوٹ بولنا صفت مائِن و مَیَّان ـ تَمَایَنَ القومُ: ایک دوسرے پر جھوٹ بولنا۔ المَین جمع مُیُون: جھوٹ۔ کہتے ہیں: اکثر الظنون مُیُون: اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں۔ ما هُوَ اِلاّ کذبٌ و مَینٌ: یہ صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ مُتَمَایِنُ الود: کھوٹ اور دھوکہ کی دوستی والا۔

۲۔ مَانَ یَمِینُ مَینًا الارضَ: زمین کو کھیتی کے لئے جوتنا۔ المان: ہل کا پھل یا پھالہ۔

۳۔ اِلمینا جمع مَوَانٍ و مَوَانی: بندرگاہ (یونانی لفظ)۔ اِلمِینَاء جمع مَوَانٍ و مَوَانی: بندرگاہ، آبگینہ، (فارسی لفظ) ۔

ⓒ مِینا و مِیناء: شیشے کا روغن، شیشے کا روغن کرنا، مینا کاری، گھڑی کا ڈائل۔ مَطلِی بالمیناء: مینا کاری کیا ہوا۔ میناء جویّہ: ہوائی اڈہ۔

میہ: مَاهَ یَمِیهُ مَیهًا و مَیهَۃً السیفَ وغیرہ بماء الذهب: تلوار وغیرہ پر سونے کا پانی چڑھانا۔ فُلانًا: کو پانی پلانا ـــ ت البئرُ: کنویں کا بہت پانی والا ہونا۔ ـــ مَیهَۃً و مَاهَۃً و مَیهًا الرکیّۃَ: کنویں کے پانی کو زیادہ کرنا۔ المَاهَۃ والمَیهَۃ: کنویں کے پانی کی بہتات۔ الأمْیَه: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: البئرُ اَمْیَهُ مما کانت: کنواں پہلے سے زیادہ پانی والا ہے۔

میي: مَیّ و مَیَّۃ و مَیَّا: عورتوں کے نام۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ن

ن تلفظ (نون)۔ حروف تہجی کا پچیسواں حرف اور حروف ابجد میں ۵۰ سے عبارت ہے۔ مفرد نون کی اقسام:

تاکید کے لئے: اس کی دو قسمیں ہیں (۱) خفیفہ ساکن (۲) ثقیلہ مفتوح۔ جو دونوں فعل کے ساتھ مختص ہیں۔ جیسے لیکونَنَّ من الصاغرین اور ولا تحسبنَّ اللّٰہ غافلا: اس کے ذریعے فعل ماضی کی تاکید نہیں کی جاتی۔ امر کی تاکید کی جاسکتی ہے۔ جہاں تک مضارع کا تعلق ہے تو اس کی تاکید مندرجہ ذیل صورتوں میں واجب ہے۔ (۱) جب قسم کے جواب میں واقع ہو اس صورت میں قسم اور مضارع کے لام میں فاصلہ نہیں ہونا چاہئے۔ نیز ضروری ہے کہ فعل مثبت اور مستقبل ہو جیسے تاللّٰہ لاکیدن اصنامکم: جب جواب قسم ہو اور مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں تو تاکید ممتنع ہے۔ دوسری صورتوں میں تاکید اور عدم تاکید ہر دو روا ہیں۔ لیکن طلب میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) نونِ تنویں: یہ اسم کے آخر میں نون ساکنہ زائد ہوتا ہے۔ پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا جیسے کتابٌ (کتابُن)۔

(۳) نونِ تانیث: یہ یا تو خفیفہ مفتوحہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ لاحق ہوتا ہے جیسے: ضَرَبْنَ و یَضْرِبْنَ اضْرِبْنَ: اور یہ ضمیر ہے یا وہ نون مشدّدہ ومفتوحہ ہوتا ہے اور مؤنث پر دلالت کرنے کے لئے ضمیروں کے ساتھ متصل ہو کر آتا ہے۔ جیسے: غلامُکُنَّ و مِنھُنَّ و ضربھُنَّ اور حرف ہوتا ہے۔

(۴) نون وقایہ: یہ یائے متکلم سے پہلے آتا ہے، جیسے ضربَنی و اِنّنی۔

(۵) نون زائدہ: اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو فعل مضارع کے ساتھ لاحق ہوتا ہے جب کہ ضمیر تثنیہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ جیسے ضربان و تضربانِ۔ یا ضمیر مونث مخاطب کے ساتھ متصل ہو، جیسے تَضْربین، یا جمع مذکر کے ساتھ جیسے: یَضْرِبُونَ و تَضْرِبُون: اس صورت میں مثنی میں مکسور اور باقی جگہ مفتوح ہوتا ہے۔ دوسرا زائد نون جو اسم مُثَنّٰی کے ساتھ ملحق ہوتا ہے اور مکسور ہوتا ہے۔ جیسے الزیدانِ اور جمع مذکر کے ساتھ اور مفتوح ہوتا ہے جیسے: الزیدونَ۔

نا: ضمیر جمع متکلم ہے اور رفع نصب اور جر میں مشترک ہے، جیسے ربّنا اننا سمعنا۔

نا: انأ نَأنا نَأنأَةً عن الامر: کے ناقابل ہونا ــ فی الرأی: رائے میں کمزوری ہونا، بے پرواہونا۔ صفت: نأنأ و نأنأءٌ و نُؤْنُوء: یعنی عاجز۔ بزدل ــ فلاناً: کو اس کام سے جو وہ کرنا چاہتا ہے، روکنا ــ تَنَأنَأَ عن الامر: کے ناقابل ہونا ــ فی الرأی: رائے میں کمزور ہونا۔

۲ ــ نَأنَأ نَأنأَةً فُلاناً: کو اچھی غذا دینا۔

نات: نَأَتَ ــ نَأْتاً و نِئِيتاً: گریہ وزاری کرنا۔ الرجُلَ: سے حسد کرنا۔

ناث: نَأَثَ ــ نَأْثاً و مَنْأَثاً عنه: سے دور ہونا، دیر لگانا۔ الرَّجُلُ: کوشش کرنا۔ انْأَثَ اِنْآثاً ہُ: کو دور کرنا۔ کہا جاتا ہے نسعی سعیاً نأثاً: وہ سست چال چلا۔ سیرٌ مِنْأَثٌ: سست اور آہستہ چال۔

نَابُلُس: (مغربی اردن کا ایک شہر) نَابُلِي یا نَابُولي: نیپلز (جنوبی اٹلی کی بندرگاہ)۔

ناج: انَأَجَ ــ نُؤُوجًا فی الارض: ملک میں جانا۔

۲ نَأَجَ ــ نُؤُوجًا الامرَ: معاملہ کو پیچھے ڈالنا۔

۳ نَأَجَ ــ نَئِيجًا إلى اللّٰه فی الدعاء: بوقت دعا خدا تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری کرنا ــ تِ الریحُ: ہوا کا تیز ہونا ــ تِ الریحُ الموضعَ: کسی جگہ سے ہوا کا تیزی اور شدت سے گزرنا ــ نَأْجًا و نُؤَاجًا الثورُ: بیل کا آواز نکالنا ــ نَئِجَ القومُ: قوم کو سخت ہوا لگنا ــ النائِجَة جمع نَـائِجات: سخت وتند ہوا۔ النَّأَّج: بہت آواز نکالنے والا، تیز ــ رجُلٌ نَأّجٌ: بلند آواز آدمی ــ رِيحٌ نَؤُوجٌ جمع نَوَائِج: تیز چلنے والی ہوا ــ النَّئِيج (مص): کہا جاتا ہے للریح نَئِيجٌ: ہوا سائیں سائیں کرتی گزرتی ہے ــ المَنْؤُوج (مفع): حدیثٌ مَنْؤُوج: پیچیدہ بات۔

۴ نَئِجَ ــ نَأْجاً: آہستہ کھانا۔

نَارَجِيل: ناریل (اسم جمع) ــ نَارَجِيلَة: (واحد): ناریل، حقہ۔

ناد: نَأَدَ ــ نَأْدًا ہُ: سے حسد کرنا ــ تہُ الداھیةُ: پر مصیبت نازل ہونا ــ تِ الارضُ: زمین کا بہت چشموں والی ہونا ــ النَّآد و النَّآدَى و النَّؤُود: مصیبت۔

نأر: نَأَرَ ــ نَأْرًا ت نَائِرَةٌ فی الناس: لوگوں میں ہیجان ہونا۔

النَّؤُور: چربی کا دھواں۔

نَارْدِين: ایک پودا جس سے خوشبودار روغن نکلتا ہے۔

نارنج: تلخ مالٹا ــ نازی: نازی۔ ہٹلر کی جرمنی کی نیشنل سوشلسٹ پارٹی کا رکن ــ نَازِيَة: نازیت۔

ناش: انَأَشَ ــ نَأْشًا و تَنَآءَشَ الشیءَ: کو پکڑنا، پر گرفت کرنا ــ انْتَأَشَ ہُ اللّٰہُ: اللہ کا کسی چیز کا خاتمہ کرنا، جڑ سے اکھاڑنا ــ النَّؤُوش: طاقتور، غالب

۲ نَأَشَ ــ نَأْشًا الامرَ: کو موخر کرنا ــ الشیءَ: کو دور کرنا ــ تَنَأَّشَ: پیچھے رہنا، دور ہونا ــ الامرَ: معاملہ کو پیچھے ڈالنا، موخر کرنا ــ الشیءَ: کو دور کرنا، کو دور سے لینا ــ اِنْتَأَشَ: پیچھے رہنا، دور ہونا ــ فلاناً: کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ست اور آہستہ پانا۔ النَّئِیش: بعید، دور۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَهُ نَئِیشًا: اس نے اسے آخر میں کیا۔ جاءَ نَئِیشًا: وہ دیر سے آیا۔ اِتَّبَعَهُ نَئِیشًا: وہ اس سے پیچھے رہ گیا پھر جلدی میں اس کے پیچھے چلا تا کہ وہ اسے طرح نہ دے جائے۔

۳۔ نَأَش ـ نَأْشًا و تَنَاءَش هُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو زندہ کرنا اور بلند کرنا۔ ـــ الرجُلُ من مكانه: اپنی جگہ سے اٹھنا۔ اِنْتَأَش الشيءُ فلانًا: کو جلدی میں ڈالنا۔ ـــ بغنمه: بکریوں کے ساتھ کوچ کرنا۔

○ ناس: مرد، لوگ، عوام۔ نَاسُوت: انسانی خو، طبیعت یا فطرت، انسان دوستی۔

ناف: نَأَفَ ـ نَأْفًا في الامر: کسی کام کی کوشش کرنا۔ سنف ـ نَأْفًا و نَأَفًا من الشراب: سے سیراب ہونا۔ ـ الرجُلَ: سے نفرت کرنا۔ ـ الشيءَ: کو کھانا۔

نال: نَأَلَ ـ نَأْلًا و نَئِيلًا و نَأَلَانًا الفرسُ: گھوڑے کا ہل ہل کر چلنا۔ صفت: نَؤُول۔ ـــ الرجُلُ: سر اٹھا کر ہلاتے ہوئے چلنا۔ ـ فلانًا: سے حسد کرنا۔

نأم: نَأَمَ ـ نَئِيمًا: آہستہ کراہنا، رونا۔ ـــ ت القوسُ والأسدُ والظبيُ: کمان، شیر اور ہرن کا آواز کرنا۔ النَّأْمَة: نَأَم کا اسم مرۃ، نغمہ، آواز۔ کہا جاتا ہے: أَسكتَ الله نَأْمتَهُ: اللہ اسے موت دے۔

○ نَأَمَ ـ نَأْمًا: آواز نکالنا، بجنا، گونجنا، کھنکنا؛ کراہنا، ہائے ہائے کرنا، آہ وزاری کرنا، آہیں بھرنا۔ نَأْمَة: آواز، شور، لہجہ، لب ولہجہ، سُر۔

نأی: ۱۔ نَأَى يَنْأَى نَأْيًا فلانًا و نَأَى عن فلان: سے دور ہونا۔ صفت: ناءٍ م نائِيَة۔ ـ النُّؤْيَ للخيمة: خیمہ کے گرد کھائی کھودنا۔ نَاءَى مُنَاآةً الرجُلَ: کو دور کرنا۔ ـــ الشرَّ عن فلان: سے برائی دور کرنا۔ أَنْأَى فلانًا عنه: کو سے دور کرنا۔ ـــ النُّؤْيَ للخيمة: خیمہ کے اردگرد کھائی کھودنا۔ تَنَاءَى تَنَائِيًا: دور ہونا۔ اِنْتَأَى اِنْتِئَاءً: دور ہونا۔ ـ النُّؤْيَ للخيمة: خیمہ کے گرد کھائی کھودنا، بنانا۔ النَّائِي: بعید۔ النَّأْي و النُّؤْي و النِّئْي و النُّؤْي جمع آنْآء و أنْآء و نُئِي و نِئِي: سیلاب کو روکنے کے لئے خیمہ کے گرد بنائی ہوئی کھائی۔ المُنْتَأَى: دور جگہ۔

۲۔ النَّاي جمع نايات (مو): بانسری (فارسی لفظ)۔

○ نَأَى ـ نَأْيًا عن: سے دور ہونا، سے دور رہنا، سے فاصلہ پر رہنا، سے علیحدہ رہنا، سے دور چلے جانا، سے تجاوز کرنا، انحراف کرنا، سے غیر حاضر ہونا، کو چھوڑنا، چھوڑ دینا، چھوڑ جانا۔ نَأَى ہ/ ہ عن: کو سے دور رکھنا، کو سے فاصلہ پر رکھنا؛ کے درمیان، ...... وسیع فاصلہ رکھنا۔ أَنْأَى ہ عن: کو سے دور کرنا، دور لیجانا، کو سے فاصلہ پر رکھنا۔ تَنَاءَى: ایک دوسرے سے دور ہونا، فاصلہ پر ہونا، علیحدہ ہونا۔ ـــ عن: سے دور رہنا، علیحدہ رہنا، سے فاصلہ پر ہونا۔ اِنْتَأَى عن: سے دور ہونا، فاصلہ پر ہونا، سے دور چلا جانا، سے تجاوز کرنا، غیر حاضر ہونا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ نَأْي: دوری۔ نَأْي و نُؤْي جمع آنْآء و أنْآء: کھائی، خندق۔ أَنْأَى: زیادہ دور، زیادہ فاصلہ پر۔ مَنْأًى: دور افتادہ جگہ۔ كان بمَنْأًى عن: سے دور ہونا، سے علیحدہ رہنا، سے باہر ہونا، میں ملوث نہ ہونا، سے کسی قسم کے تعلق کا انکار کرنا۔ تَنَاءٍ: بہت فاصلہ، دوری۔ ناءٍ: دور، بہت دور، فاصلہ پر، بعید، پرے کا، دور افتادہ، غیر معمولی دور، الگ تھلگ، گوشہ گزینی یا عزلت گزینی کا۔

نبّ: ۱۔ نَبَّ ـ نَبًّا و نَبِيبًا و نُبَابًا التيسُ خاصةً: مینڈھے کا جوش کے وقت آواز نکالنا۔ النَّبَّة: نَبّ کا اسم مرۃ۔

۲۔ نَبَّبَ تَنْبِيبًا النباتُ: پودے کا پوریوں والا یا گانٹھ دار ہونا۔ تَنَبَّبَ الماءُ: پانی کا بہنا۔ الأُنْبُ بمعنی الأُنْبُوب جمع أَنَابِيب: بانس نرکل یا نیزے کا پورا۔ بانس نرکل کی طرح ہر گول جوف دار چیز۔ أُنْبُوبُ الماء: پانی کی نالی۔ ـــ من الشجر: درختوں کی قطار۔ أُنْبُوبُ الكوزِ: کوزہ کی ٹونٹی۔ أَنَابِيبُ الرِئَة: پھیپھڑے کی سانس لینے کی نالیاں۔ الأُنْبُوبَة: بانس یا نرکل کا پورا۔

۳۔ النَّبَّة: بدبو۔

○ أُنْبُوب و أُنْبُوبَة جمع أَنَابِيب: گرہ دار تنے یا ڈنڈی کا جوڑ۔ دو گانٹھوں یا گرہوں کے درمیان کا حصہ، پورا۔ نلکی، نلی، ٹیوب، پائپ، نل، بڑی نالی، بڑی نالی کا پائپ، بڑا مسام۔ ٹیوب (جیسے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب) روشنی کا قمقمہ، بلب۔ أُنْبُوبُ الرِئَة: نرخرا، سانس کی نالی (windpipe)، ہوا کی نالی (trachea)۔ أُنْبُوبُ الطوربيد: تارپیڈو ٹیوب۔ أُنْبُوبٌ مُفَرَّغ: خلا ٹیوب vacuum tube (ریڈیو)۔ خطُّ الأنابيب: پائپ لائن۔ أُنْبُوبِي: نلکی کا سا، نلکی نما، نلکیوں والا، ٹیوب کی شکل کا، پائپ کا (مرکبات میں)۔

نبأ: ۱۔ نَبَأَ ـ نَبْأً: آہستہ آواز نکالنا۔ ـــ نَبْأً و نُبُوءًا الشيءُ: بلند ہونا۔ ـــ على القوم: پر ظاہر ہونا، کو اچانک پالینا۔ ـ الشيءُ: دور ہونا۔ کہا جاتا ہے: نَبَأَ سمعي عن ... میرے کان نے اس سے نفرت کی۔ میرے کان نے اس سے گریز کیا، میں نے اس سے کنی کترائی۔ ـ من ارض إلى ارض: ایک زمین سے نکل کر دوسری زمین کی طرف جانا۔ نَبَّأَ تَنْبِئَةً و تَنْبِيئًا فلانًا الخبرَ و بالخبر: کو خبر دینا، آپ کہتے ہیں: نَبَّأْتُ زيدًا عُمرًا خارجًا: میں نے زید کو عمر کے نکلنے کی اطلاع دی۔ نَابَأَ مُنَابَأَةً ہُ: ایک دوسرے کو خبر دینا۔ ـــ القومَ: قوم سے دور ہو جانا، قوم کے پڑوس کو چھوڑ جانا۔ أَنْبَأَ فلانًا: کو اپنے سے دور ہٹانا، کو ایک زمین سے دوسری زمین کو نکال دینا۔ ـــ فلانًا الخبرَ و بالخبرِ: کو خبر دینا۔ تَنَبَّأَ تَنَبُّؤًا: نبوت کا دعوی کرنا، غیب یا مستقبل کے متعلق گفتگو کرنا۔ إِسْتَنْبَأَ الرجُلَ: سے خبر دریافت کرنا۔ ـ النبأَ: خبر کی تفتیش کرنا۔ النابئ (فا): ٹیڑھی بلند جگہ۔ رجُلٌ نابئٌ و سيلٌ نابئٌ: غیر متوقع یا پردیسی آدمی، اچانک آنے والا سیلاب۔ النَّبَأ جمع أَنْبَاء: خبر (کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے)، پراسرار آواز، کتوں کی آواز۔ النُّبُوءَة و النُّبُوَّة: اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر غیب کی بات بتانا، پیشین گوئی کرنا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے متعلق باتیں بتانا۔ النَّبِيءُ: ٹیڑھی بلند جگہ، واضح راستہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا۔ ـــ والنَّبِيُّ جمع نُبَآء و نَبِيُّون و أَنْبِاء و نُبَّاء م نَبِيئة و نَبِيئات: اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر غیب کی باتیں بتانے والا، پیشین گوئی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے متعلق خبریں دینے والا، نسبت کے لئے نَبَوِيّ تصغیر نُبَيِّئ۔

○ نَبَأَ ـ نَبْأً و نُبُوءًا: بلند ہونا، اونچا ہونا، باہر کو نکلا ہوا ہونا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا۔ ـ على: کو زیر کرنا، پر قابو پانا، کو قابو میں لانا، کو گھیرے میں لے لینا، کو کچل ڈالنا۔ ـ عن: سے دور ہو جانا، ہٹ جانا، چلے جانا، پیچھے ہٹنا، کترانا؛ سے پیچھے ہٹانا جانا، پسپا کیا جانا، بیزار ہو جانا، دل کھٹا ہونا، برگشتہ ہونا، صدمہ پہنچنا، رنجیدہ ہونا۔ نَبَّأَہ عن/ب: کو کی خبر دینا، اطلاع دینا، سے کا اعلان کرنا، کو کچھ بتانا، کو کا مشورہ دینا، کو کی نصیحت کرنا، کو کے متعلق آگاہ کرنا۔ ـــ عن: کا ثبوت ہونا، کی گواہی یا شہادت ہونا؛ کو دکھانا، بتانا، ظاہر کرنا، واضح کرنا، کا انکشاف کرنا، کو منظر عام پر لانا۔ أَنْبَأَ ہ ب: کو کی خبر دینا، اطلاع کرنا، کو کی اطلاع دینا، سے کا اعلان کرنا، کو کے بارے میں بتانا، کو کے متعلق آگاہ کرنا۔ تَنَبَّأَ ب: کی پیشین گوئی کرنا، کی پیش گوئی کرنا، آنے والے (خطرے وغیرہ) کا نشان ہونا۔ تَنَبَّأَ: نبوت کا دعوی کرنا، اپنے آپ کو نبی ظاہر کرنا۔ اِسْتَنْبَاہ: سے خبر با

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

معلومات دریافت کرنا، کو پوچھنا، کا حال پوچھنا، کے بارے میں استفسار کرنا۔ نَبَأ جمع أنْبَاء: خبر، اطلاع، معلومات، اعلان، رپورٹ۔ وِكَالَةُ الانباء: خبر رساں ایجنسی۔ مَكْتَبُ الأنباء: خبر رساں ایجنسی۔ نَبَأة: ہلکا شور، نیچی آواز۔ نُبُوءَة جمع نبوءات: پیشین گوئی، غیب دانی، الہامی گفتگو، پیغمبرانہ قابلیت۔ انْبَاء جمع إنْبَاءات: نوٹیفکیشن، اطلاع، خبر، خبر رسانی، مکتوب، مراسلہ۔ تنبّؤ جمع تنبّؤات: پیشین گوئی، پیش گوئی۔

نبت: نَبَتَ ـُ نَبْتًا و نَبَاتًا المكانُ: جگہ کا سبزی والا ہونا۔ ـــ البَقْلُ: سبزی کا زمین سے پھوٹنا۔ ـــ نَبْتَةً و نَبَاتًا الانسانُ: جوان ہونا۔ کہا جاتا ہے: نَبَتَ فلانٌ فی مَنْبَتِ صدقٍ: وہ ایسے لوگوں کی اولاد ہے جو سچائی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ـــ نُبُوتًا ثَدْيُ الجارية: لڑکی کے پستانوں کا ابھرنا۔ نَبَّتَ الشجرَ: پودے لگانا۔ ـــ الحبَّ: غلہ بونا۔ ـــ الصبيَّ: بچہ کی پرورش کرنا۔ انبتَ الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونا۔ ـــ المكانُ: جگہ کا سبزہ اُگانا۔ ـــ البقلُ: سبزی کا اُگنا۔ ـــ اللّٰهُ البقلَ: اللہ تعالیٰ کا سبزی اگانا۔ صفت مَنْبُوت: (خلاف قیاس) تَنَبَّتَ الشیءُ: چیز کا ظاہر ہونا۔ النَابِت (فا): نئی اگی ہوئی سبزی وغیرہ۔ النَابِتَة: النابت کا مؤنث: انسانوں اور مویشیوں کے بچے۔ کہا جاتا ہے: ان بنی فلان لَنَابِتَةُ شر: فلاں قبیلہ کے لوگ برائی کی نسل ہیں۔ النَبْتُ (مص) جمع نُبُوت: سبزی واحد نَبْتَة۔ النَبَات (مص) واحد نَبَاتة جمع نَبَاتات و أنْبِتَة: جو کچھ زمین اگائے جیسے درخت، پودے، بیلیں، گھاس وغیرہ۔ علم النبات: علمِ نباتات (botany)۔ النَبَاتِی: نبات کی طرف نسبت، نباتات کا ماہر۔ النَبُّوت جمع نَبَابِيت: درخت کی شاخ، موٹا ڈنڈا۔ التَنْبِيت (مص) تَنَابِيت: درخت، پودا، درخت خرما کی چھانٹی ہوئی شاخیں۔ المَنْبِت: اگنے کی جگہ۔ المِنْبَات: بہت نباتات والی جگہ۔ اليَنْبُوت جمع يَنَابِيت واحد يَنْبُوتَة (ن): خشخاش کا پودا، (ن): خروب (carob) کا درخت۔

○ نَبَتَ ـُ نَبْتًا: اُگنا (خصوصاً پودوں کا، دانتوں کا)؛ کونپل پھوٹنا، (زمین کا) پودے پیدا کرنا، روئیدگی دینا، بالیدگی دینا۔ نَبَّتَ ہ: کو بونا، کا بیج دینے سے لگنا، کا بیج بونا۔ أنْبَتَ ہ: بیج اگانا، کی کونپل پھوٹنے کا باعث بننا، کو اُگوانا، کو اُگانا، بونا (فصل) اُگانا، پیدا کرنا۔ إسْتَنْبَتَ ہ: پودے لگانا، اُگانا، (جراثیم) پالنا۔ نَبْت: پھوٹنا، اگانا، پھوٹنا، اگنا، نشوونما، اگی ہوئی چیز، سبزی کا اگنا، نباتات، پودے، روئیدگی، بالیدگی، جڑی بوٹی، سبز چارہ، گھاس، کونپل، پودا۔ قُوَّةُ النَبْتِ: اگنے کی قابلیت یا صلاحیت۔ نَبْتَة: پودا، کونپل، نئی کونپل، نئی شاخ، پنیری، ننھا پودا۔ نبات (اسم جنس) پودے، روئیدگی، بالیدگی، نباتات، سبزی جمع نَبَاتَات: پودا، نباتی نظام، جڑی بوٹی، نرم پتوں کے پودے۔ نبات اقتصادی: اقتصادی پودا۔ نباتُ الزِيْنَة: زیبائشی یا آرائشی پودا۔ نبات طِبّی: صحت بخش یا طبی حیثیت سے مفید پودا۔ آکل النبات: چرندہ، سبز چارہ کھانے والا جانور۔ نَبُّوت جمع نبابیت: ڈنڈ، ونڈا، لوہے کی شام کا بھاری ڈنڈا، لٹھ، عصا۔ مَنْبَت و مَنْبِت جمع مَنَابِت: شجرزار، باغ پودے، درخت، پودوں کا قطعہء زمین، نرسری، پودا گھر، کیاری جو کھاد کے خمیر سے گرم کی جائے، جائے پیدائش، اصل سرچشمہ، منبع، اصل، جڑ، ماخذ۔ تَنْبِيت: پودے لگانا، کاشت، کاشتکاری، کیاریوں میں بیج بونا۔ إسْتِنْبَات: پودے لگانا، کاشت، کاشتکاری، اُگانا۔ نَابِتَة: پودا۔ مُسْتَنْبَت: کاشت کیا ہوا، اگا ہوا، اُگایا ہوا، پیدا کردہ، بڑھایا ہوا، شجر زار، باغ، پودے، درخت، نرسری، پودے لگانے کی زمین، پودوں کا قطعہء زمین، کاشت کاری۔ مُسْتَنْبَتُ البکتریا: جراثیم پالنا۔

نبث: نَبَثَ ـُ نَبْثًا البئرَ: کنواں کھود کر مٹی نکالنا۔ ـــ التراب: مٹی کو کنویں وغیرہ سے نکالنا۔ ـــ فلانٌ: غضبناک ہونا۔ ـــ عن السرّ او الأمر: کسی بھید یا معاملہ کی چھان بین کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يَنْبُثُ عن عيوب الناس: فلاں شخص لوگوں کے عیب ظاہر کرتا رہتا ہے۔ تَنَابَثَ القومُ: آپس میں بحث کرنا۔ کہا جاتا ہے: لا يزالون يتنابثون عن الاسرار و يتباحثون عن الاخبار: وہ ابھی تک بھیدوں کی چھان بین اور خبروں پر بحث کر رہے ہیں۔ ـــ التراب: مٹی کو کنویں وغیرہ سے نکالنا۔ ـــ الشیءَ: کو لینا۔ إسْتَنْبَثَ عن السرّ: بھید کی تحقیقات کرنے میں کوشش کرنا۔ النَبْث جمع أنْبَاث: نشان، کھوج۔ النَبِيث: شریر۔ کہا جاتا ہے: هو خبيث نبيث: وہ خبیث اور شریر ہے۔ النَبِيثَة جمع نَبَائِث: کنویں، دریا وغیرہ سے نکالی ہوئی مٹی۔ بھید۔ کہا جاتا ہے: ظهرت نَبَائِثُهُم ولم تخف خَبَائِثُهُم: ان کے بھید ظاہر ہو گئے اور برے کام چھپے نہیں رہے۔ نَبِيثَةُ السبع: ضرورت کے وقت تک دفن شدہ گوشت۔ الأُنْبُوثَة: بچوں کا ایک کھیل جس میں وہ کوئی چیز مٹی میں چھپا دیتے ہیں۔ جو اسے ڈھونڈ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔

نبج: ۱۔ نَبَجَ ـِ نَبِيجًا: سخت آواز اور کلام والا ہونا صفت: نَبَّاج۔ النَابِجَة: مصیبت۔ النُبَاج: ریح، ریاح، گوز، پاد۔ نُبَاجُ الكلب: کتے کے بھونکنے کی آواز۔ كلبٌ نَبَّاج و نُبَاجِی: بھونکنے والا کتا۔ النَبَّاجَة: نَبَّاج کا مؤنث: سرین، چوتڑ۔ النَبَجَان جمع نِبَاج: دھمکی۔

۲۔ نَبَجَ ـُ نُبُجَاتَ القَبَجَةُ: چکور یا تیتر کا اپنے سوراخ سے نکلنا۔ انْبَجَ: اونچے ٹیلہ پر بیٹھنا۔ تَنَبَّجَ و انْتَبَجَ العظمُ: ہڈی کا سوجنا۔ النَبَجَة: ٹیلہ۔ النُبَاج: ناکارہ آدمی۔ النَبَاج: اونچے ٹیلے۔

۳۔ أنْبَجَ: بولنے میں ہچکچانا۔ النَبَّاج: جھوٹا۔ المِنْبَج: جھوٹے وعدے کرنے والا۔

۴۔ الأَنْبَج (ن): آم کا درخت، آم۔

نبح: ۱۔ نَبَحَ ـَ نَبْحًا و نُبُوحًا و نَبِيحًا و نُبَاحًا و نِبَاحًا و تَنْبَاحًا الكلبُ: کتے کا بھونکنا، صفت: نَابِح جمع نَوَابِح و نُبَّح و نُبُوح: کہا جاتا ہے: نبحه الكلب و نبح عليه: کتا اس پر بھونکا۔ النُبَاح: کتے کی آواز کیلئے ہے، دوسرے جانوروں مثلاً ہرن اور بکرے کی آواز پر بھی بولا جاتا ہے۔ ـــ الشاعرُ: ہجو کرنا۔ کہا جاتا ہے: نَبَحَتْنِی كلابُكَ: مجھ تک تمہاری گالیاں پہنچیں۔ ـــ نُبَاحًا الهُدْهُدُ: زیادہ عمر ہونے والا ہونے کے سبب ہدہد کی آواز کا بھاری ہونا۔ نَابَحَ مُنَابَحَةً ہُ الكلبُ: پر کتے کا بھونکنا۔ انْبَحَ و اسْتَنْبَحَ ہُ: کو بھونکانا۔ کہا جاتا ہے: إسْتَنْبَحَ الاضيافُ كلبَهُم: مہمانوں نے اپنا کتا بھونکایا۔ المُسْتَنْبِح: کتوں کو بھونکانے والا یعنی رات کو آنے والا۔ النَبَّاح واحد نَبَّاحَة: بہت بھونکنے والا۔ كلبٌ نَبَّاحِیٌّ: بڑا اور بہت بھونکنے والا کتا۔ النُبُوح (مص): لوگوں کا شور و غل اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں۔ یہ نَبْح کی جمع ہے۔ ظَبْيَةٌ نَبْحَاء: بہت چلانے والی ہرنی۔ المَنْبُوح: جس کو گالی دی گئی ہو۔

۲۔ النَبَّاح واحد نَبَّاحَة: سفید سیپی جو تعویذ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے نظر بد لگنے سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔

○ نَبَحَ ـَ نَبْحًا و نُبَاحًا و نِبَاحًا و نَبِيحًا علی: پر بھونکنا، چلانا۔ تَنَابَحَ: ایک دوسرے پر بھونکنا، بیک وقت یا ساتھ ہی بھونکنا، ایک دوسرے کے بھونکنے کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جواب دینا (کتوں کا عموماً رات کو)۔ نَبْح و نُباح و نِباح و نبیح: بھونکنا، بھونکنے کی آواز۔ نَبّاح: بھونکنے والا، کتے کی طرح چلانے والا۔

نبخ: ا۔ نَبَخَ ـُ نَبُوخًا العجینُ: آٹے میں خمیر اٹھنا۔ اَنْبَخَ العَجّانُ: خمیر اٹھانا۔ — الرجُلُ: نرم زمین میں کھیتی کرنا۔ النابِخۃ جمع نَوابِخ: تکبر اور سختی سے بولنے والا۔ النَّبْخ و النَّبَخ: چھالا، آبلہ۔ النّبّاخ و الأنْبَخانِ من العجین: آٹے کا پھولا ہوا، ترش خمیر۔ الأنْبَخ: مردِ سخت اندام، بہت مٹی۔ الأرْضُ النَّبْخاء جمع نَباخی: اٹھی ہوئی بلند زمین، نرم زمین۔

۲۔ النَّبْخ و النَّبَخ جسم پر آگ کے نشانات۔ النَّبْخۃ و النَّبخ بردی (کاغذ) جسے کشتیوں کی تختیوں کے درمیان رکھتے تھے۔ ماچس کی تیلی، ذرہ، ذرہ بھر۔ النابخۃ جمع نوابخ دور افتادہ زمین۔ الأنْبَخ: مٹیالے رنگ کا۔

نبذ: نَبَذَ ـِ نَبْذًا الشیءَ: کو پھینک دینا۔ — الأمرَ: کو نظر انداز کرنا۔ — العهدَ: عہد توڑنا۔ کہا جاتا ہے: نبذ إلی العدوّ: اس نے دشمن سے عہد کو اس کی طرف پھینک دیا۔ — النبیذَ: نبیذ بنانا۔ — العنبُ او التمرُ: انگور یا کھجور کا نبیذ بن جانا۔ نَبَّذَ النبیذَ: نبیذ بنانا۔ — العنبُ او التمرُ: انگور یا کھجور کا نبیذ بن جانا۔ — الشیءَ: کو پھینک دینا۔ نابَذَ مُنابَذۃً و نِباذًا ہُ: کی مخالفت کرنا اور دشمنی کی وجہ سے اس سے جدا ہو جانا۔ — ہُ الحربَ: سے اعلان جنگ کرنا۔ — ہُ فی البیعِ: سے بیع منابذہ کرنا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک بیع تھی جس میں مشتری بیع پر کنکری پھینکتا تھا اور کہتا تھا جس بھیڑ بکری پر یہ کنکری لگ جائے وہ اتنے میں میری ہے۔ اسے بیعُ الْقاءِ الحجرِ اور بیعُ الحصاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ تَنابَذوا: دشمنی کی وجہ سے، ایک دوسرے سے اختلاف کر کے علیحدہ ہو جانا۔ إنْتَبَذَ النبیذَ: نبیذ بنانا۔ — العنبُ او التمرُ: انگور یا کھجور کا نبیذ بن جانا۔ — عن القوم: سے کنارہ کرنا، قوم کو چھوڑ دینا۔ — فلانٌ: عزلت نشیں ہو جانا، پرے ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے: انتبذ إلی ناحیۃ و انتبذ مکانًا: ایک طرف ہو جانا، علیحدہ جگہ چلے جانا۔ النَّبْذ (مص) جمع أنباذ: تھوڑی سی چیز۔ کہا جاتا ہے: ذهب مالُهُ و بقی نبذ منه: اس کا مال جاتا رہا، صرف تھوڑا سا بچا۔ أنْباذُ الناسِ: اوباش لوگ۔ النُّبْذَۃ و النَّبْذۃ جمع نُبَذ: گوشہ۔ (کہا جاتا ہے: جلس نُبْذَۃً: وہ ایک گوشے میں جا بیٹھا) چیز کا حصہ۔ جیسے کتاب کا ایک حصہ۔ النَّبیذ م نَبِیذَۃ: پھینکا ہوا، دھتکارا ہوا۔ — جمع أنْبِذَۃ: شراب یا کھجور سے کشید کی ہوئی شراب۔ عموماً انگور یا کھجور کا رس۔ النَّبّاذ: نبیذ فروش۔ المَنْبُوذ (مفع): حرام کا بچہ، بچہ جسے اس کی ماں نے راستہ میں پھینک دیا ہو۔ المِنْبَذَۃ جمع مَنابِذ: تکیہ، سرہانہ۔ نَبَذَ ـِ نَبْذًا و نَبَذانًا عِرقُهُ: کی رگ کا یا نبض کا چلنا، دھڑکنا، پھڑکنا، تھرتھرانا (نبض کے معنی میں)۔

۲۔ نَبَذَ ـِ نَبْذًا ہُ: کو زور سے پھینکنا، پٹخنا، پھینکنا، کو بے پروائی سے پھینکنا؛ کو مسترد کرنا، ترک کرنا، کو بیکار سمجھ کر پھینک دینا، کو ٹھکرانا، پر لات مارنا۔ — ہ: کو نکال دینا، ترک کر دینا، کا حقہ پانی بند کرنا، برادری سے نکالنا، کو نکال باہر کرنا، خارج کرنا، جلا وطن کرنا، شہر بدر کرنا، دیس نکالا دینا، کو ماننے یا اپنا کہنے سے انکار کر دینا، سے بے تعلقی ظاہر کرنا، کو پہچاننے سے انکار کر دینا، سے قطع تعلق کرنا، دور کرنا، نظر انداز کرنا، برخاست کرنا، چھوڑنا، جانے دینا، چھوڑ بیٹھنا، سے الگ ہو جانا، سے دستبردار ہونا۔ — ہ: کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، قسم کھا کر ترک کرنا، کو بالکل چھوڑ دینا۔ — ہ: (عہد وغیرہ) توڑنا، کی خلاف ورزی کرنا، کی بے ادبی کرنا، کی بے حرمتی کرنا۔ — إلی: کے خلاف فیصلہ دینا۔ نَبَذَه نَبْذَ النَّواۃ: کو مسترد کرنا، کو ٹھکرانا، کو لات مارنا۔ نَبَّذَ بمعنی نَبَذَ نیز نَبَّذَ ہ: انگوروں کو نچوڑنا۔ نابَذَہ: سے جدا ہونا، الگ ہونا، کی رکنیت چھوڑنا، سے قطع تعلق کرنا؛ کی مخالفت کرنا، کا مقابلہ کرنا۔ نابَذَہ الحربَ: کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ أنْبَذَ ہ: انگوروں کو نچوڑنا۔ تَنابَذَ: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔ إنْتَبَذَ: دستبردار ہونا، کنارہ کش ہونا، گوشہ نشین ہونا، پیچھے ہٹنا، واپس ہو جانا۔ — ناحیۃً: پرے ہو جانا، پرے ہٹ جانا، ایک طرف ہو جانا، گوشہ نشین ہو جانا۔ نَبْذ: پھینکنا، مسترد کرنا، استرداد، نامنظوری، قطع تعلق، انکار، تردید، دستبرداری، واگزاشت، دست کشی، تیاگ، ترک۔ جمع أنباذ: تھوڑا سا، معمولی سی چیز۔ نبذ الطاعۃِ: نافرمانی۔ نُبْذَۃ: تھوڑا سا ٹکڑا، حصہ، چھوٹا سا حصہ کسر، (اخبار میں) مضمون، کہانی، قطعہ، پمفلٹ، دستی اشتہار، چھوٹا اشتہار۔ نبیذ: مسترد کیا ہوا، متروک، نکالا ہوا، برطرف کیا ہوا، قبول نہ کیا ہوا، نہ مانا ہوا، انکار کیا ہوا، قطع تعلق کیا ہوا، جمع أنبذۃ: شراب۔ روح النبیذ: شراب کی سپرٹ، الکحل۔ القوۃ النابذۃ: مرکز گریز قوت۔ منبوذ: پھینکا ہوا، [illegible] ہوا، (ری) سے [illegible] ہوا، برادری سے نکالا ہوا، جلا وطن کیا ہوا، نکالا ہوا، ماننے سے انکار کیا ہوا، اپنانے سے انکار کیا ہوا، پہچاننے سے انکار کیا ہوا، مسترد کیا ہوا، جس سے لاتعلقی ظاہر کی گئی ہو، چھوڑا ہوا، گرا پڑا بچہ، بن ماں باپ کا بچہ، نظر انداز کیا ہوا۔ المنبوذون: (ہندوستان میں) اچھوت، شودر۔

نبر: ا۔ نَبَرَ ـِ نَبْرًا الغلامُ: لڑکے کا بڑھنا۔ — المغنّی: گویے کا آواز کو پست کرنے کے بعد بلند کرنا۔ — الرجُلُ: کو ڈانٹنا، جھڑکنا۔ — ہُ بلسانه: کی غیبت کرنا۔ — الشیءَ: کو اونچا کرنا۔ — الحرفَ: حرف پر ہمزہ لگانا۔ — الرمحَ عنه: تیزی سے نیزہ اٹھانا۔ أنْبَرَ الأنبارَ: کٹھیلا بنانا۔ إنْتَبَرَ الجرحُ: زخم کا سوجنا۔ — الخطیبُ: خطیب کا منبر پر چڑھنا۔ — الجسدُ: جسم کا سوجنا۔ — ت یدُهُ: کے ہاتھ میں چھالا پڑنا۔ النَّبْر (مص): بے شرم، لوگوں کی غیبت کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: طعن طعنا نبرا: جلدی سے اور آنکھ بچا کر خنجر مارنا۔ النِّبْر جمع نِبار و أنْبار (ح): چیچڑی، ایک قسم کی مکھی، غلہ رکھنے کی کوٹھری، کٹھیلا۔ النَّبْرَۃ: نبر کا اسم مرہ، اوپر کے ہونٹ کا درمیانی گڑھا، ہمزہ (ء)؛ جسم کی سوج، ورم، پست آواز کو بلند کرنا، خوف کی چیخ، کسی چیز کا بلند حصہ۔ النُّبُرَۃ جمع نُبَر: بڑا لقمہ۔ النَّبّار: چلانے والے، فصیح۔ رجل نَبّار بالکلام: فصیح شخص۔ النَّبِیر: پنیر۔ اکلنا النبیر: ہم نے پنیر کھایا۔ الأنبار جمع أنابِر و أنابیر و أنبارات: غلہ رکھنے کی کوٹھڑی۔ کہا گیا کہ انبار ایک مفرد نام ہے جو فارسی سے معرب ہے۔ المِنْبَر جمع مَنابِر: وہ بلند جگہ جس پر چڑھ کر خطیب یا واعظ لوگوں کو خطاب کرتا ہے، منبر۔ قصائدُ مُنَبَّرَۃ و مَنْبُورَۃ: ہمزہ کے قافیہ والے قصیدے۔

۲۔ النِّبْر جمع نِبار و أنبار: پست قد، کمینہ۔ النَّبِیر: دانا آدمی۔

۳۔ النَّبْریج: (عوام نَربیج کہتے ہیں): حقہ کی نلکی (فارسی لفظ)۔

۴۔ النِّبْراس جمع نَبارِیس: چراغ، لالٹین، لیمپ (سریانی لفظ): نیزے کا سرا، دلیر، جرأت والا۔ (ح): شیر۔ النَّبارِیس: قریب قریب واقع کنویں۔ النِّبْرِیس: ہوشیار، ماہر۔

۵۔ النِّمْبِرِشت: نیم بریاں۔ بیض نمبرشت: نیم بریاں انڈہ۔ عوام کہتے ہیں: بیض برشت (فارسی لفظ)۔

نَبَرَ ـُ نَبْرًا: اونچا اٹھانا، بلند کرنا، آواز بلند کرنا، اونچی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

آواز میں گانا؛ زور دینا، زور ڈالنا، زوردار لہجے میں ادا کرنا۔ — ہ: سے بلند آواز میں بات کرنا، سے چلا کر کہنا، اونچی آواز سے اظہار خیال کرنا۔ اِنْتَبَرَ: سوجنا، متورم ہونا۔ نبر: تاکید زور۔ نِبر و انبار جمع أنابر و أنابیر: غلہ گودام، غلہ رکھنے کا کوٹھا، سٹور روم، سٹور ہاؤس، کوٹھی، گودام، مال خانہ۔ نَبْرَة جمع نَبَرات: سوجن، ورم، ابھار، زور، تاکید، دباؤ، آواز کا انداز، لہجہ جمع نَبَرات: لہجہ، آواز کا انداز، لہجہ جمع نبرات: لہجہ، آواز کا اتار چڑھاؤ، زیر و بم، لے، الحان، جملوں کی موسیقیت، نثر کا وزن۔ مِنبر جمع منابر: منبر، پلیٹ فارم، چبوترا، سٹیج، شہ نشین۔ مِصَار جمع مَصابیر: آنتیں، امعا، آنت، رودہ۔ مصار مَحْشِی: قیمہ بھری آنت، مسالہ دار آنت۔ اتخذمنه نِبْراسًا: کو نمونہ جاننا یا سمجھنا، اپنے آپ کو کسی جیسا بنانا۔

نبز: نَبَزَ ـ نَبْزًا و نَبَزَةً: کو برا لقب دینا۔ — ہ بکذا: کو سے ملقب کرنا (برے معنی میں آتا ہے)۔ تَنَابَزُوا بالالقاب: ایک دوسرے کو شرم دلانا، ایک دوسرے کو برے لقب دینا۔ النبَز جمع أنباز: لقب۔ النبِز: کمینہ، برا۔ النُبَزَة: برے لقب دینے والا۔
○ نبز ـ نَبْزًا و نَبَزَہ: کو تضحیک آمیز یا ہتک آمیز نام دینا۔ نَبْز جمع أنباز: عرف، فرضی نام۔

نبس: ۱۔ نَبَسَ ـ نَبْسًا و نُبْسَةً و نَبَسَ بالمجلس: مجلس میں بولنا، اس کا استعمال نفی میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: مانبَسَ بکلمة: وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ — السِرَّ: راز کو چھپانا۔ أنبَسَ: ذلت سے خاموش ہونا۔ النُبس: بولنے والے۔ رجل انبَسُ الوجہ م نَبْسَاء جمع نُبْس: ترش رو، تیوری چڑھانے والا۔
۲۔ نَبَسَ ـ نُبْسًا و نُبْسَةً الرجل: متحرک ہونا، جلدی کرنا۔ أنْبَسَ: جلدی کرنا۔ النُبُس: جلدی کرنے والے، (اپنی حاجتوں میں)۔

نبش: ۱۔ نبَش ـ نَبشا الشيءَ المستورَ: چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا۔ — الکنزَ من الارضِ: دفینہ زمین سے کھود کر نکالنا۔ اس سے ہے: نَبَشَ القبرَ۔ — الحدیث: بات نکالنا۔ — السِرَّ: بھید ظاہر کرنا، افشا کرنا۔ — عن الاسرار: بھیدوں کو نکال لینا۔ — لِعیالِه: کنبے کے لئے کمائی کرنا۔ نَبَّش ہ: کی تلاش کرنا، کو ڈھونڈنا۔ اِنتَبَش الشیءَ من الارض: چیز کو زمین سے نکالنا۔ النَبَّاش: فعال مبالغہ کے لئے، گورکن، قبر کھودنے والا۔ النِباشة: گورکنی کا پیشہ۔ النبیشة: کھودی ہوئی زمین یا کنواں۔ الانبوش: کھدا ہوا، کھدی ہوئی چیز۔ — و الانبوشة جمع أنابیش: جڑ سے اکھڑا ہوا درخت۔ انابیش العنصلِ و نحوِہ: جنگلی پیاز کی زمین میں جڑیں۔
۲۔ النِبْش (ن): ایک قسم کا درخت جس کے پتے صنوبر کے پتوں جیسے ہوتے ہیں اور لکڑی سرخ اور بہت سخت ہوتی ہے۔
○ نَبَش ـ نَبْشًا ہ: کو کھودنا، کو کھود کر نکالنا، لاش کھود کر نکالنا، قبر سے نکالنا، کو قعر گمنامی سے نکالنا؛ راز فاش کرنا، کا انکشاف کرنا، کو معلوم کرنا، کا پتہ چلانا، کو واضح کرنا۔ نَبَّش فی: کو میں تلاش کرنا، کو میں بری طرح الٹ پلٹ کرنا، کو میں کریدنا، میں بل کھودنا، بھٹ بنانا؛ کو لوٹنا، کی لوٹ مار کرنا، ہر چیز لوٹ لینا، جھاڑو پھیرنا۔ نَبْش القبور: قبروں کی بےحرمتی۔ انبوش و انبوشة جمع أنابیش: کھدائی، کھودی ہوئی چیز۔

نبص: ۱۔ نَبَصَ ـ نَبْصًا في المجلس: مجلس میں بولنا۔ اس کا اکثر استعمال نفی میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ما نبص بکلمه: وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ (سین اونچے درجہ کا ہے)۔ نَبَصَ نبیصًا الطائرُ: پرندہ کا آہستہ سے چوں چوں کرنا۔ النَبْصَة: نبص کا اسم مرۃ، لفظ، بات کہا جاتا ہے: ماسمعت لهُ نَبْصَةً: میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔
۲۔ نَبَصَ ـ نَبْصًا الشعرَ: بال اکھیڑنا۔
۳۔ النَبْص (مص): سبزی کی کونپل۔

نبض: ۱۔ نَبَضَ ـ نَبْضًا و نَبَضَانًا العرقُ: رگ کا پھڑکنا۔ — تِ الأمعاء: آنتوں کا مضطرب ہونا۔ — البرقُ: بجلی کا ہلکے سے چمکنا۔ — نَبْضًا الشعرَ: بال اکھیڑنا۔ — نُبوضًا الماءُ: پانی بہنا یا جذب ہونا۔ نَبَضَ فی القوس: آواز نکالنے کے لئے کمان کی تانت کھینچنا۔ انْبَضَ القوس و عن القوس و فی القوس: آواز نکالنے کے لئے کمان کی تانت کھینچنا۔ — الوترَ و بالوتر: بجانے کے لئے تانت کو کھینچنا۔ النَبْض جمع انبَاض: دل اور رگوں کی دھڑکن جس سے بدن کی صحت و بیماری کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ فؤادٌ نَبْضٌ: بہادر اور ہوشیار دل۔ فؤادٌ نَبِضٌ و نَبِضٌ: بہادر اور ہوشیار دل۔ النَبْضَة: نبض کی ایک دھڑکن۔ النابض (فا): تیر انداز، پٹھا۔ کہا جاتا ہے: نَبَضَ نابِضُهُ: اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔ المَنبِض جمع مَنابِض (طب): وہ جگہ جہاں طبیب ہاتھ رکھ کر نبض کی حالت دریافت کرتا ہے۔ المِنبَض جمع مَنابِض: روئی دھننے کا آلہ۔
○ نَبَضَ ـ نَبْضًا و نَبَضَانًا: (دل، نبض) کا دھڑکنا، پھڑکنا، اچھلنا، چلنا، دھک دھک کرنا۔ — نُبوضًا: بہنا، بہہ جانا۔ نَبْض و نَبَض جمع أنباض: دھڑکنا، دھڑکن، ارتعاش، تڑپ، اختلاجِ قلب، دل کی دھڑکن، نبض۔ جنبشِ نبض، تھرتھراہٹ، لرزش، نبض یا دل کا حرکت کرنا۔ نَبْضَة: دھڑکن، تڑپ، ارتعاش، نبض یا دل کی حرکت۔ نابِض: مرتعش، دھڑکتا ہوا، اچھلتا، پھڑکتا، دھڑکتا، جوش کی حالت میں دھڑکتا ہوا، دھک دھک کرتا: کمانی، چکر دار کمانی۔ نابضٌ بالحیاة: زندگی سے مرتعش، زندگی سے جھومتا، تھرتھراتا، زندگی کی لہر سے معمور۔

نبط: ۱۔ نَبَطَ ـ نَبْطًا و نُبوطًا الماءُ: پانی کا پھوٹ نکلنا۔ — نَبْطًا البئرَ: کنویں کا پانی نکالنا۔ — الشیءَ: پوشیدگی کے بعد چیز کو ظاہر کرنا۔ نَبَّطَ البئرَ: کنویں کا پانی نکالنا۔ انبَطَ البئرَ: کنویں کا پانی نکالنا۔ — الشیءَ: پوشیدگی کے بعد چیز کو ظاہر کرنا۔ — الحُکمَ: اجتہاد سے حکم استنباط کرنا۔ کہا جاتا ہے: أنبَطَ رأيًا حسنا او معنیً صائبا: اس نے اچھی رائے یا صحیح مفہوم استنباط کیا یا نکالا۔ تَنَبَّطَ: نبطیوں کے مشابہ ہونا یا ان کی طرف منسوب ہونا۔ — البئر: کنویں کا پانی نکالنا۔ اِنتَبَطَ الکلامَ: اجتہاد سے بات نکالنا۔ اِستَنبَطَ البئر: کنویں کا پانی نکالنا۔ — الشیءَ: پوشیدگی کے بعد چیز ظاہر کرنا۔ — ہُ: کو ایجاد کرنا۔ — من فلانٍ خیرًا: سے بھلائی کا نتیجہ نکالنا۔ — العربُ: عربوں کا نبطی ہو جانا۔ — الفقیهُ: فقیہ کا اپنے فہم و اجتہاد سے کوئی بات نکالنا۔ کہا جاتا ہے: اِستَنبَطَ رأيًا حَسَنا او معنیً صائبًا: اس نے اچھی رائے اور صحیح مفہوم کا استنباط کیا۔ النَبَط: آدمی کی اندرونی حالت۔ (کہا جاتا ہے: فلان لایُدرَكُ نَبَطُهُ: فلاں کی اندرونی حالت اور اس کے علم کی تہ نہیں ملتی)۔ گھوڑے کی بغل اور پیٹ کی سفیدی۔ — جمع أنباط و نُبوط: کنویں کا پہلے ظاہر ہونے والا پانی، پہاڑ سے بہنے والا مادہ، گویا وہ چٹانوں کے پہلوؤں سے نکلا ہوا پسینہ ہے۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ قریبُ الثری بعید النَبَط: فلاں شخص وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا۔ — واحد نبطی و نباطِی (بتثلیث النون) و نباط جمع أنباط و نَبِیط: عجمی لوگ جو عراقین کے درمیان آباد ہوئے تھے۔ مخلوط لوگ۔ نبطی و نُباطی: نبط سے منسوب۔ کلمة نبطیة: عام کلمہ۔ النُبْطَة: سب سے پہلے ظاہر ہونے والا کنویں کا پانی۔ گھوڑے کی بغل اور پیٹ کے نیچے کی سفیدی۔ الانبط م نَبطاء جمع نُبْط من الخیل: گھوڑا جس کی بغل اور پیٹ کے نیچے سفیدی ہو۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲ نبط فیہ: پراثر کرنا، پراثر انداز ہونا۔

۞ نبط ـُ نُبُطًا و نبوطًا: پانی کا پھوٹ نکلنا، ابلنا، فوارہ کی طرح بہنا، پھوٹ بہنا، دھار بن کر نکلنا، جاری ہونا، کا دریا بہنا۔ خبط علی: کی غلطیاں نکالنا، پراعتراض کرنا، پرنکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا، کی ہنسی اڑانا، کا مذاق اڑانا، پرآوازے کسنا، پر ہنسنا، میں میخ نکالنا، کیڑے نکالنا۔ انبط ہ: کو پھوٹ بہانا۔ کو ظاہر کرنا، سطح پرلانا۔ ـــ ہ: (پانی، تیل وغیرہ) معلوم کرنا، دریافت کرنا۔ ـــ ہ: کو اتفاقاً پالینا، (سرچشمہ، کنواں وغیرہ) کھولنا۔ استنبط ہ: (پانی تیل وغیرہ) دریافت کرنا، کو اتفاقاً پالینا، (سرچشمہ کنواں وغیرہ) کھولنا، کو ایجاد کرنا، دریافت کرنا، اختراع کرنا، کی ترکیب نکالنا، کی تدبیر کرنا، کا بندوبست کرنا، جتن کرنا، انتظام چلانا۔ ـــ ہ من: کو سے حاصل کرنا، کو سے مشتق کرنا، کو سے نکالنا، کا سے اقتباس کرنا، کو سے لینا، پانا، وصول کرنا، نکالنا۔ نَبَط: گہرائی، گہرا، تجر، اندرونی، عمیق، ولی، قلبی، گہرا عمیق ترین حصہ، قلبی حصہ، بالکل اندرونی حصہ، دل، گودا، مغز، بنیادی نکتہ۔ مُستنبِط: دریافت کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ مُستنبَطات: ایجادات، انکشافات۔

نبع: انبَعَ ـــ وَنبِع ـ وَنبُعَ ـ نَبعًا و نبوعًا و نبعانًا الماءُ: پانی کا چشمہ سے نکلنا۔ تنبّع الماءُ: پانی کا تھوڑا تھوڑا آنا۔ المنبَع (مص): پانی کا چشمہ (سریانی لفظ) ضرب المثل ہے: لو اقتدح بالنبع لأورَی نارًا: جس شخص میں جودت رائے ہو اس کے لئے یہ ضرب المثل بیان کی جاتی ہے۔ کیونکہ نبع میں تو کوئی آگ نہیں ہوتی۔ المنابِع (فا): وہ قلم جس میں سیاہی ہو۔ المنابِعة جمع نَوَابِع: نابع کا مونث۔ نَوَابِعُ البعیر: اونٹ کے پسینے والے اعضاء۔ المنبّاعة: سرین، چوتڑ۔ المنبَع: پسینہ۔ المَنبَع جمع مَنابِع: چشمہ۔ الینبُوع جمع ینابیع: پانی کا چشمہ۔ بہت پانی والا نالا، ندی، کہا جاتا ہے: فجّر اللّٰہُ ینابیع الحکمة علی لسانه: اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے دانائی کے چشمے جاری کرے۔

۲ النبع (ن): ایک درخت جس سے تیر کمان بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: قرعوا النبع بالنبع: انہوں نے ایک دوسرے سے نیزہ بازی کی۔ ما رأیتُ أصلَبَ منه نبعًا: میں نے اس سے زیادہ سخت کسی کو نہیں دیکھا۔ النبعة (ن): النبع درختوں کا واحد۔ کمان کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هو من نبعةٍ ... چندیا یا تالو، سخت ہونے پر اس کا نام یافوخ ہوتا ہے۔ النبعیّة: نبع درخت سے بنائی گئی کمان۔

۞ نبع ـِ نبعًا و نبوعًا و نبعانًا من: سے پانی کا پھوٹ نکلنا، ابلنا، فوارہ کی طرح بہنا، پھوٹ بہنا، دھار بن کر نکلنا، جاری ہونا، کا دریا بہنا۔ ـــ: دریا کا چڑھنا، وجود میں آنا۔ انبَعَ ہ: کو بہانا۔ نبع: ایک درخت جس کی لکڑی تیر بنانے میں کام آتی تھی۔ چشمہ، منبع، سرچشمہ، اصل، ماخذ۔ قرعَ النبع بالنبع: دشمن سے شمشیر زنی کرنا۔ منبع جمع منابع: چشمہ، کنواں، سرچشمہ، اصل، منبع زیت یا منبع بترول: تیل کا کنواں۔ ینبوع جمع ینابیع: چشمہ، سرچشمہ، کنواں۔

نبغ: نَبَغَ ـِ نَبغًا و نبوغًا الشیءُ: چیز کا نکلنا، ظاہر ہونا۔ ـــ الماءُ: پانی کا چشمہ سے نکلنا۔ ـــ الوعاءُ بالدقیق: برتن سے پتلا ہونے کی وجہ سے آٹے کا نکلنا، چھننا۔ ـــ الشرُّ: برائی کا پھیلنا، ظاہر ہونا۔ ـــ رأسُهُ: سر میں بھوسی ہونا۔ ـــ الرجلُ: اچھے شعر کہنا۔ ـــ فی العلم وغیرہ: علم وغیرہ میں فائق ہونا۔ ـــ فی الدنیا: دنیا میں آسائش کی زندگی گزارنا، کہا جاتا ہے: نبغ فیهم النفاق: لوگوں میں منافقت ظاہر ہوگئی، جسے وہ چھپاتے تھے۔ نبّغ النّاخلُ: آٹا چھاننا۔ ـــ البلدَ: شہر میں بہت آنا جانا۔ المُنبُغ: چکی کا گرد و غبار۔ نُبغة القوم: قوم کے برگزیدہ لوگ۔ المنباغ: چکی کا گرد و غبار۔ ـــ والنُّباغة والنّبّاغ و النّباغة: آٹا سر کی بھوسی۔ النابغة: وہ گفتگو جس کی فصاحت ظاہر ہوئی۔ جمع نوابغ: فصیح، خوش بیان، عظیم الشان شخص۔ النوابغ: آٹھ مشہور شاعروں کا لقب، نسبت کے لئے نابغی۔ النبیغ جمع نُبغاء: عظیم الشان شخص۔

۞ نبغ ـِ نُبغًا و نبوغًا من: سے پیدا ہونا، سے برآمد ہونا، نکلنا۔ ـــ: مشہور ہونا، نمایاں ہونا، نظر آنا، نمودار ہونا، دکھائی دینا، پھیلنا، منتشر ہونا، نفوذ کرنا، پھیلایا جانا، اعلیٰ اور غیر معمولی خوبیاں کا مالک ہونا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا۔ ـــ فی: میں بازی لیجانا، سبقت لیجانا، نمایاں ہونا، نمایاں اور غیر معمولی شخص ہونا، غیر معمولی ذہین (نابغہ) ہونا۔ نُبوغ: امتیاز، اعزاز، اعلیٰ یا غیر معمولی خوبیاں، غیر معمولی صلاحیتیں، قابلیت، صلاحیت، ذہانت، طباعی، جوہر، عظیم ذہانت، غیر معمولی ذہانت، نمایاں عظمت، آب و تاب۔ نابغ: نمایاں، ممتاز، قابل، ذہین، طباع، جوہر قابل، غیر معمولی خوبیوں کا مالک، ذہین فطین شخص۔ نابغة جمع نوابغ: مشہور، نمایاں شخص، شعر گوئی میں ...

نبق: نَبَقَ ـــ نَبقًا: وادی میں ایک قطار پودا لگانا۔ ـــ الرجلُ: لکھنا۔ نبّق الرجلُ: لکھنا۔ ـــ الشجر: پودے ترتیب وار لگانا۔ ـــ الکتابَ: کتاب پر ترتیب وار لکیریں کھینچنا۔ ـــ وانبق: وادی میں ایک قطار پودا لگانا۔

۲ نَبَقَ ـُ نَبقًا و نبّق الشیءُ: نکلنا، ظاہر ہونا۔ نبّق النخلُ: کھجور کے درخت کا خراب ہونا اور کھجوروں کا بیروں کی طرح چھوٹا ہونا۔ أنبق الکلام: کلام نکلوانا۔ النّبق (مص): کھجور کے درخت کے گودے سے نکلنے والا میٹھا آٹا۔ ـــ والنِّبق والنَّبق واحد نبقة: بیری کے درخت کا پھل۔ النّبیقة جمع نبائق: انگور کے خوشے نکلنے کی جگہ میں بڑی گرہ۔

۞ نَبق و نِبق و نَبَق و نبق: (اسم جمع واحد نَبِقَة) ایک خار دار پودا۔ کنول پھل، کنول پھول۔ الإنبیق والأنبیق جمع أنابیق: قرنبیق، شراب کشید کرنے کا قدیم آلہ، بھبکا، بوتل جس میں کشید کیا ہوا عرق وغیرہ جمع کیا جاتا ہے۔

نبک: نَبَکَ ـُ نبوکًا و انتبکَ المکانُ: جگہ کا بلند ہونا۔ النابک جمع نوابک: بلند جگہ، کہا جاتا ہے: مکانٌ نابکٌ و ارضٌ نابکة: اونچی جگہ یا زمین۔ النَّبَکة جمع نَبَک و نُبک و نِباک و نُبوک: چوٹی دار ٹیلہ یا چھوٹا ٹیلہ۔ النبکة جمع نَبَک و نَبک و نِباک و نُبوک: چوٹی دار ٹیلہ یا چھوٹا ٹیلہ۔ درخت کی جڑ۔

۞ نُبکة و نَبکة: پہاڑی، ٹیلہ، تودہ۔

نبل: انبُلَ ـُ نَبالَةً: شریف و نجیب ہونا۔ صفت نبل و نبیل م نَبلة و نبیلة جمع نبال و نبائل و نبلات و نبیلات۔ نبلاء: پرشرافت و نجابت میں غالب آنا۔ ـــ الرجلَ: کو تیر مارنا یا تیر دینا۔ ـــ الإبلَ: اونٹوں کو تیز ہانکنا۔ ـــ الرجلُ: تیز چلنا۔ ـــ بالسهم: تیر مارنا۔ ـــ علی القومِ: تیر چن کر لوگوں کو دینا تاکہ وہ اسے چلائیں۔ نبُلَ ـُ نبالةً عن کذا: سے بڑا ہونا۔ نبّل الرجلَ: کو تیر دینا۔ نابلَ مُنابلةً ہ: پرشرافت و نجابت میں غالب آنا۔ انبل ہ: کو تیر دینا۔ ـــ القداحَ: تیروں کو موٹا اور سخت بنانا۔ تنبّل: صاحب شرافت اور سمجھ دار ہونا، شرفاء کے مانند بننا، مرنا۔ ـــ المالَ: اچھا اچھا مال لینا۔ ـــ ت الخطوبُ: حوادث کا بڑا ہونا۔ تنابلَ القومُ: ایک دوسرے سے تیر اندازی یا تیر بنانے میں مقابلہ کرنا۔ انتبل: مرنا، مرجانا، متعفن ہونا۔ ـــ فلانًا: کو قتل کرنا۔ ـــ الخطبُ: حادثہ کا بڑا ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو یک بیک پھرتی سے اٹھالینا۔ ـــ للامر: معاملہ بات وغیرہ سے آگاہ ہونا اور اس کے لئے تیار

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سے عمدہ حصہ لینا، اچھا اچھا مال لینا۔ النَّابِلُ جمع نُبَّل
و نَبَـــــل: تیر والا۔ تیر مارنے والا، تیر بنانے والا، تیر
چلانے کا ماہر، کہا جاتا ہے۔ اختلط الحابل بالنابل:
جب کوئی گڑ بڑ ہو جائے تو اس وقت کہتے ہیں۔ یعنی
سب کچھ گڈ مڈ ہو گیا، کامل ابتری کی حالت میں ہو
جانا۔ النُّبْلُ ذکاوت، شرافت، نجابت، فضیلت، کمال
جسم، کہا جاتا ہے: اخذ للامر نُبْلَهُ: اس نے کام کی
تیاری کی النَّبْلُ (مص) جمع نِبَال: صاحب نجابت و
فضیلت۔ واحد نُبْلَةٌ جمع نِبَال و أَنْبَال و نُبْلَان: تیر
(مونث ہے)۔ نَبْلُ الدهر حوادث زمانہ رَجُلٌ نَبْلٌ
جمع نُبَلَاء: صاحب فضیلت و بزرگی النُّبَال واحد نُبَلَة:
بڑے یا چھوٹے پتھر۔ النَّبَل اصحاب ذکاوت و نجابت
(اسم جمع ہے)۔ واحد نَبَلَة بڑے یا چھوٹے پتھر۔
رَجُلٌ نَبْلٌ م نَبْلَة: شریف آدمی۔ النُّبْلَةُ جمع نُبَلات
عطیہ، ثواب و جزاء۔ نُبْلَة كل شيء ہر شئے کا عمدہ
حصہ۔ النَّـبَـلَـة: اصحاب ذکاوت و نجابت (اسم جمع
ہے)۔ النَّبَالَة (مص) ذکاوت، نجابت، فضیلت۔
النِّبَالَة: تیر سازی۔ النُّبَالَة: تیاری، کہا جاتا ہے: اخذ
للامر نُبَالَتَهُ: اس نے کام کے لئے تیاری کی۔ النَّبَّال
جمع نَبَّالَة: تیر والا، تیر انداز، تیر بنانے والا۔ النَّبِيل جمع
نِبَال: صاحب نجابت و فضیلت، بڑے جسم والا، بھاری
بھرکم، کہا جاتا ہے۔ انه نبيل الرأي: وہ عمدہ رائے
والا ہے۔ النَّبِيلَة جمع نَبَائِل: نبیل کا مونث، کہا جاتا
ہے: فلانة نبيلة بالحسن: وہ عورت بہت نجیب اور
فضیلت والی ہے۔ مردار (کیونکہ پھینک دیا جاتا ہے)
الأَنْبَل اسم تفضیل، زیادہ شریف و نجیب و زیادہ ذکاوت
والا۔ تیر اندازی کا زیادہ واقف یا ماہر۔

۲۔ نَبَلَ ـُ نَبْلًا ہ بالطعام: تھوڑا تھوڑا کھانا دیکر بہلانا۔
بہ: سے نرمی برتنا۔ النُّبْلَةُ جمع نُبَلات: چھوٹا لقمہ۔

۳۔ أَنْبَلَ النخل: کھجور کے درخت کا پکی ہوئی کھجوروں والا
ہونا۔

۴۔ النِّبَال و التِّنْبَال: دیکھو تنبل۔

نَبَلَ ـُ نَبْلًا ہ: پر تیر چلانا۔ نَبُلَ ـُ نَبَالَةً: شریف ہونا،
اونچے خاندان کا ہونا، عالی نسب ہونا، شریف النفس
ہونا، کریم النفس ہونا، فیاض ہونا، فراخدل ہونا۔ ــــ
عن: سے بالاتر ہونا، کسی ذلیل حرکت پر اتر آنے سے
کہیں عالی ظرف و منش ہونا۔ اتنا عالی ظرف ہونا کہ
کسی ذلیل حرکت پر اتر آنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ نَبُلَ
و نَبِيل جمع نِبَال و نُبَلَاء: شریف، نجیب، بہت اونچا،
سرفراز، پرجلال، جلیل القدر، عالیشان، خاندانی،
شائستہ، عالی نسب، سربرآوردہ، ممتاز، امیرانہ انداز
والا، شریف النفس، عالی ظرف، کریم النفس، برتر،
شاندار، پرشکوہ۔

نبه ۱۔ نَبَهَ ـُ و نَبُهَ ـُ نَبَاهَةً: شریف ہونا، مشہور ہونا، صفت
نَابِهٌ و نَبْهٌ و نَبِهٌ و نَبِيهٌ۔ نَبِهَ ـَ نَبَاهَةً: بمعنی نَبَهَ۔ ــ
نَبِهًا للامر: معاملہ کو سمجھ جانا۔ ــ نُبْهًا من نومه: نیند
سے بیدار ہونا۔ نَبَّهَ باسمه: اس نے اس کے نام کو
مشہور کیا۔ ــ ہ من نومه: کو نیند سے بیدار کرنا۔ ــ ہ
علی او الی الامر: کو سے واقف کرنا، آگاہ کرنا۔
أَنْبَهَ ہ من النوم: کو نیند سے بیدار کرنا۔ تَنَبَّهَ من
نومه: نیند سے بیدار ہونا۔ ــ علی او للامر: معاملہ
سے واقف ہونا۔ معاملہ کو سمجھ جانا۔ انْتَبَهَ الرجل:
خاندانی ہونا۔ ــ من النوم: نیند سے بیدار ہونا۔ ــ
للامر: معاملہ کو سمجھ جانا۔ إسْتَنْبَهَ من نومه: نیند سے
بیدار ہونا۔ النَّابِه و النَّبِه جمع نُبَهَاء: شریف، سمجھدار،
شرافت والا، شہرت والا۔ امرٌ نَابِهٌ: بڑا کام النُّبْه:
سمجھ، دانائی۔ النَّبَه (مص) مشہور، کھوئی ہوئی چیز جو
بلا تلاش مل جائے، موجود چیز۔ کہا جاتا ہے: وجدتُ
الضالة نَبَهًا: مجھے کھوئی ہوئی چیز بلا تلاش مل گئی۔ ــ
جمع نُبَهَاء: سمجھدار شرافت والا، شہرت والا، شریف کہا
جاتا ہے: رجلٌ نَبَهٌ: شریف مرد قومٌ نَبَهٌ: شرفاء
(مفرد و جمع کے لئے کیونکہ وہ مصدر ہے) النَّبَاه: بلند،
نمایاں۔ النَّبَاهة: سمجھ، شرافت، شہرت۔ النَّبِيه جمع
نُبَهَاء: شریف، سمجھدار، شرافت والا، شہرت والا۔
المَنْبَهَة: یاد کرانے کا ذریعہ کہا جاتا ہے: هذا مَنْبَهَةٌ
علی کذا: اس سے فلاں چیز کا پتہ چلتا ہے۔ رجلٌ
منبوهُ الاسم: معروف نام کا شخص۔

۲۔ أَنْبَهَ الحاجة: حاجت کو بھول جانا۔

نَبَهَ ـُ و نَبِهَ ـَ و نَبُهَ ـُ و نَبَاهَةً: معروف ہونا، مشہور
ہونا، نامور ہونا، ممتاز ہونا، نامی گرامی ہونا۔ نبه ـ نباهًا
ل: کی طرف توجہ کرنا، کی نگہداشت کرنا، کو دیکھنا، ــ
جاگنا، بیدار ہونا۔ نَبَّهَ ہ الی / علی: کی توجہ کسی چیز کی
طرف مبذول کرانا، کو کی طرف توجہ دلانا، کو کچھ دکھانا یا
بتلانا، کو سے مطلع کرنا، آگاہ کرنا، کو کی اطلاع دینا، کو کی
یاددہانی کرانا۔ ــ ہ علی: کو کے بارے میں اطلاع
دینا، ہدایت دینا، حکم دینا، کو کے بارے میں تازہ ترین
اطلاع یا ہدایت دینا، بریف کرنا۔ ــ ہ: کو متنبہ کرنا،
تنبیہ کرنا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا۔ ــ ہ من النوم: کو نیند
سے جگانا۔ ــ ہ: کو چوکس کرنا، ہوشیار کرنا، جھنجھوڑنا، تیز
کرنا، میں جلا کی پیدا کرنا۔ أَنْبَهَ ہ / ہ: کو بیدار کرنا،
ہلانا۔ تَنَبَّهَ ل / إلی: کا ادراک کرنا، کو سمجھنا، بوجھنا، پر
غور کرنا، کو سوچنا، کو دیکھنا، پر دھیان کرنا۔ کو پوری طرح
سمجھ لینا، سے آگاہ ہونا، باخبر ہونا۔ علی / الی / ل:
کے لئے چوکس ہونا، پر متوجہ ہونا، کا نوٹس لینا، پر توجہ
کرنا، سے باخبر یا آگاہ ہونا، کے بارے میں ہوشیار ہو
جانا، چوکس ہو جانا۔ ــ بیدار ہونا، جاگ جانا۔ ــ
لنفسه: ہوش میں آنا۔ إِنْتَبَهَ: چوکنا ہونا، چوکس ہونا،
ہوشیار ہونا، محتاط ہونا، بیدار ہونا۔ ــ ل / الی: کو دیکھنا،
سمجھ لینا، کی طرف توجہ کرنا، کو سمجھ لینا، کا ادراک کرنا،
سے آگاہ ہونا، پر توجہ دینا۔ لنفسه: ہوش میں آجانا۔
مَنْبَهَةٌ علی: کی طرف کسی کی توجہ دلانے کی آواز،
پکار یا چیخ، کا محرک، کی تحریک، انگیخت، آلةُ التنبيه:
ہارن، بھونپو (Horn) بانتباہ توجہ سے، ہوشمندی
سے۔ مُنَبِّه جمع مُنَبِّهَات الارم والا ٹائم پیس۔
مُنَبِّه Alarm Clock چوکس، چوکنا، ہوشیار،
بیدار، متوجہ محتاط، ہوشمند، مُتَنَبِّه بیدار، چوکنا، چوکس
ہوشیار۔

نبو: نَبَا يَنْبُو نَبْوَةً و نُبُوًّا و نُبِيًّا بصرهُ: کی نظر دھندلی
ہونا صفت ناب ـ الشيءُ دور ہونا، پیچھے ہونا، اپنی جگہ
قرار نہ پکڑنا۔ ــ نُبُوًّا و نَبْوَةً السيفُ عن الضريبة:
مضروب، سے تلوار کا اچٹ جانا اور کاٹ نہ کرنا۔ جنبُهُ
عن الفراش: بستر پر بے چین و بے آرام ہونا۔ ــ
السهمُ عن الهدف: تیر کا نشانہ سے چوک جانا۔ ــ
الطبعُ عن الشيء: طبیعت کا سے نفرت کرنا اور اسے
قبول نہ کرنا۔ ــ ت صورةُ فلان: کی شکل بدصورت
ہونا اور آنکھوں میں نہ جچنا۔ ــ عن الشيء: کو زائل
کرنا، جدا کرنا، چھوڑنا۔ ــ المكانُ بفلان: جگہ کا کو
موافق نہ آنا۔ ــ عليه الامرُ او الصاحبُ: کیلئے
معاملہ یا ساتھی کا کھرا نہ ہونا۔ ــ بي فلانٌ: فلاں نے
مجھ پر ظلم کیا، کہا جاتا ہے: نَبَتْ بي تلك الارضُ:
مجھے یہ زمین موافق نہ ہوئی۔ میں نے اس زمین پر قرار
نہ پایا۔ أَنْبَى السيفَ: تلوار کو کند کرنا۔ النَّابِي: چوک کنے
والی تلوار یا تیر، لڑائی میں پشت دینے والا، موٹا۔
النَّابِيَة: نابی کا مونث، تانت سے دور کمان۔ النَّبَاءَة:
شرافت، ریاست اور آگے بڑھنے کی طلب۔ النَّبَاوَة:
اونچی زمین۔ النَّبْو: بلندی النَّبْوَة (مص) اونچی
زمین۔ نَبْوَةُ الزمان: زمانہ کی سختی۔ النُّبُوَّة النُّبُوءَة:
(دیکھو نبأ) النَّبِيّ، النَّبِيء (دیکھو نبأ) ــ من
الارض: بلند زمین۔

نَبَا ـُ نُبُوًّا و نُبُوًّا: دور ہونا، بہت دور ہونا، دور چلے
جانا۔ ــ عن (تیر کا) نشانہ سے چوک جانا، نشانہ پر نہ
لگنا۔ ــ عن إلی (گیند کا) سے اچھل کر تک جانا،
سے تک چھلانگیں لگانے جانا، سے تک اچٹنا، سے کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بلٹنا، سے نکل کر پیچھے (کسی جگہ) ہٹنا ــ عن ــ سے کسی
بات پر اختلاف رکھنا، سے متصادم ہونا، آویزاں ہونا،
کے خلاف یا برعکس ہونا، کا الٹ ہونا، سے متضاد، سے
بے میل یا بے جوڑ ہونا، کو سخت ناپسند ہونا، ناگوار ہونا، کو
ناپسند کرنا، سے نفرت کرنا۔ نَبَا بِهِ المكانُ: اس نے
محسوس کیا کہ وہ اس جگہ نہیں رہ سکتا۔ نَبِي جمع نَبِيُّون
وأنبياء: نبی، پیغمبر۔ نَبَوِی: نبوی، نبی کا، نبی سے
متعلق خصوصا نبی کریم سے متعلق۔ نُبُوَّہ: پیغمبری، نبوت،
پیش گوئی، پیشین گوئی۔ ـــ ب ـــ سخت ناپسند، ناپسندیدہ
مکروہ، نامناسب، نازیبا، بدصورت، ڈراؤنا۔

نت: نَتَّ ـ نَتِيتًا القِدرُ: ہانڈی کا ابلنا ــ ـُ نتًّا و
نَتِيتًا منخرُهُ: غصہ سے نتھنے پھلانا۔ نَتَّ الحَرُّ: خبر
بیان کرنا۔ نَتَنَ الرجلُ: صفائی کے بعد گندہ ہونا۔
النَّتَة: چھوٹا سا گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔

نتا: نَتَا ـ نَتْوًا و نُتُوًّا الشيئُ: اپنی جگہ سے باہر کو نکلنا مگر
جدا نہ ہونا ــ الشيئُ: بلند ہونا، پھولنا ــ تِ
القرحةُ: زخم کا متورم ہونا، سوج جانا ــ الثدیُ:
پستانوں کا ابھرنا۔ ـ تِ الجاريةُ: لڑکی کا بالغ ہونا۔ ـ
علی القومِ: قوم کے سامنے ظاہر ہونا۔ اِنتتَا الشيئُ:
بلند ہونا۔ درست ہونا۔ النَّاتِي (فا): ہر بلند چیز جیسے
گھر وغیرہ۔ تخفیف کرکے ناتی بھی کہہ سکتے ہیں۔
النُّتوء (مص) و النَّتَاة: ٹیلہ۔

نتأ: نَتَأَ ـ نَتْأً و نُتُوءًا: پھولنا، سوجنا، ابھرنا، باہر کو نکلنا، نکل
آنا، آگے یا باہر نکلا ہوا ہونا، ابھرا ہوا ہونا، نمایاں ہونا،
منبت کار ہونا، بیلیں جڑی ہونا، ابھرواں نقش والا ہونا۔
نَتَأَة: پہاڑی، ٹیلہ، بلندی، ارتفاع، چڑھائی۔ نُتوء:
سوجن، ورم، گومڑا، گلٹی، دنبل، سخت ابھار، شاخسانہ،
پھنسی، پھوڑا، رسولی، آگے کو نکلا ہوا حصہ، چھجا، پہاڑ کا
سامنے نکلا ہوا حصہ، نمود، ابھار، پہاڑی، ٹیلہ، بلندی،
ارتفاع۔ نُتوءُ الجَبهَة: دشمن کی صف اول میں ڈالا
ہوا شگاف۔ فرنٹ لائن کا ابھار۔ ناتِي جمع نَوَاتِي:
پھولن، پھولا ہوا، باہر کو نکلا ہوا، نمایاں، ابھرا ہوا، ابھار،
ناہموار ابھار، پہاڑی، ٹیلہ، ارتفاع، بلندی، کوہان،
کب، کوبڑ۔ ناتي كُعبُرِي: کلائی کی ہڈی۔ ناتِئَة جمع
نَواتِي: ابھرا ہوا حصہ، آگے کو نکلا ہوا حصہ، ابھار، نمود،
امتیاز، شاخسانہ، دنبل، پھوڑا، پھنسی، رسولی، کوہان،
کب، کوبڑ، بلندی، ارتفاع۔

نتب: نَتَبَ ـ نُتُوبًا الشيئُ: پھولنا، سوجنا، ابھرنا، باہر کو
نکلنا، نکل آنا، آگے یا باہر نکلا ہوا ہونا، ابھرا ہوا ہونا۔

نتج: نَتَجَ ـ نَتْجًا الماخضَ من البهائم: جانور کے
جننے تک اس کی خبر گیری کرنا۔ صفت ناتِج: جانور،
مَنتُوجة اور بچہ، نتیجہ کہلاتا ہے، کہا جاتا ہے لِتَنتَجَها
ولدًا: اس نے سے جانور کا بچہ جنوایا۔ نَتَجَ الرجلُ
الحاملَ: حاملہ نے اس کے ہاں بچہ جنا ــ الشيُ
من الشيئِ: چیز کا چیز سے نکلنا۔ نتاجَتِ البهيمةُ
ولدًا: جانور کا بچہ جننا۔ الولدُ عند العامة: بچہ کا
جوان ہونا۔ صفت ناتِج: کہا جاتا ہے لِتَنتَجتِ الريحُ
السحابَ: ہوا کا بادل سے بارش برسوانا۔ نُتِجَ
نَتَاجَاتُ البهيمةُ ولدًا: جانور کا بچہ جننا ــ الولدُ:
بچہ کا جنا جانا ـــ القومُ: قوم کے مویشیوں کا جننا۔

نتج: نَتَجَ کے معنی میں تشدید کثرت کے لئے آتا ہے۔
عوام نَتَجَ: اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنے کام
سے کمائے۔ اَنتَجَ القومُ: لوگوں کا حاملہ اونٹنیوں اور
بکریوں والا ہونا یا ان کی اونٹنیوں اور بکریوں کا جننا۔
ت البهيمةُ: جانور کا جننے کے قریب ہونا۔ صفت نَتُوج
(مُنتِج نہیں کہا جاتا) ــ الشیءُ من الشيئِ: چیز سے
چیز پیدا کرنا یا نکالنا ــ ت الريحُ السحابَ: ہوا کا
بادل سے بارش برسوانا۔ اَنتجَ ت البهيمةُ ولدًا:
جانور کا بچہ جننا۔ تَنَتَّجَ تِ البهيمةُ: جانور کا جننے کی
حالت میں ہونا۔ تَنَاتَجَ تِ الابلُ: اونٹنیوں کا بچہ
دینا، جننا۔ اِنتَتَجَ ت الابلُ: اونٹنیوں کا بچے دینا، جننا۔
ت الناقةُ: اونٹنی کا کسی نامعلوم جگہ جا کر بچہ جننا۔
اِستَنتَجَ: بچہ جنوانا۔ مقدمات سے نتیجہ نکالنا۔ الناتج
(فا) للبهائم: جنانے والا۔ النِتاج: جانوروں کے
بچے جننے کی حالت۔ بالناقة نتاجٌ: اونٹنی حاملہ ہے۔
النَتوج: حمل والا جانور۔ النتيجة جمع نتائج: نتیجہ،
بچہ۔ (ع ح): دیکھو فَرُض کہا جاتا ہے: غنمُ فلان
نَتائِج: فلاں کی بکریاں ایک ہی عمر کی ہیں۔ المَنتَج:
بچہ جننے کا وقت۔ المِنتَجة: جانور کی دبر۔

نَتَجَ ـ نِتاجًا ھ: بچہ جننا ــ من/عن: سے حاصل
کرنا، کا نتیجہ ہونا، سے پیدا ہونا، سے نتیجہ نکلنا۔ اَنتَجَ
ھ: بچہ جننا، کو بنانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، کا
باعث ہونا، کا باعث بننا۔ اِستَنتَجَ ھ من: سے نتیجہ
اخذ کرنا کہ، کو لگنا، خیال کرنا، سمجھنا، سے نتیجہ پر پہنچنا کہ
سے مستنبط کرنا کہ، سے نتیجہ نکالنا کہ، سے نتیجہ اخذ کرنا
کہ۔ نِتاج: جننے کا کام یا عمل، جھول، جیتے پوٹے، بچہ
یا بچے، اولاد، جانوروں کے بچے۔ نِتاجُ الخيلِ:
بچھیرا، بچھیرے، بچھیری، بچھیریاں۔ نَتيجَة جمع نتائِج:
نتیجہ، پیداوار، انجام، فوری نتیجہ، پھل، میوے، وصولی،
نفع، فائدہ، کارخانے کی مجموعی پیداوار، نتیجہ، استنباط،
قیاس، استخراج، تقویم، جنتری، کلنڈر۔ نتيجة: کی
وجہ سے، کے نتیجے میں، بوجہ، بسبب۔ بالنتيجة: اس لئے،
اس سبب سے، اس وجہ سے، لہٰذا چنانچہ، اس واسطے، بنا
بریں، بدیں وجہ۔ نتيجة الجيب: پاکٹ کلنڈر۔
نتيجة الحائط: دیوار کا کلنڈر۔ اِنتاج: تخلیق، اولاد،
نسل، پشت، پیڑھی، بنانا، صنعت۔ مشینی پیداوار،
پیداوار، تربیت۔ ثمر آوری، زرخیزی، اشیاگری، بار
آوری، تخلیقی سرگرمی۔ الانتاجُ الأدبي: علمی، ادبی انشا
یا تصنیف۔ رسمُ الانتاج: آبکاری محصول (Exise
Tax)۔ مَنتوج جمع مَنتوجات: مصنوعہ چیز،
پیداوار، تخلیق، کام۔ مُنتِج: جننے والا، پیدا کرنے والا،
پھلدار، بارآور، نتیجہ خیز، پیدا کرنے کے قابل، زرخیز،
ذہن رسا، کثیر الاولاد، بہتات سے پیدا کرنے والا،
فیصلہ کن، قطعی یا دوٹوک (شہادت) بنانے والا، صنعت
کار، کاریگر، تیار کرنے والا، فلم ساز (Film
producer) مُنتَجات: مصنوعات۔ مُنتَجاتٌ
زراعيةٌ: زرعی پیداواریں۔ مُستَنتِج: بنانے والا،
صنعت کار، کاریگر، پیدا کرنے والا، تیار کرنے والا۔

نتح: نَتَحَ ـ نَتْحًا و نُتُوحًا العرقُ: بدن سے پسینہ نکلنا۔
ـ الدسمُ من الاناء: چکنائی کا برتن سے رسنا۔ ـ ہُ
الحرُّ: کو گرمی کا پسینہ لانا۔ اِنتَتَحَ الشيئَ: کو اکھیڑنا۔
النَّتح (مص): پسینہ۔ زِقٌّ نَتّاحٌ: رسنے اور ٹپکنے والی
مشک۔ النَّتُوح (مص): درخت کا گوند۔ المَنتَح جمع
مَناتِح: جسم کے مسام۔ المِنتَحة: سرین۔
نُتحة: رس، عرق، پسینہ۔

نتخ: اِنتَخَ ـ نَتخًا الشيئَ: کو اکھیڑنا کہا جاتا ہے نَتَخ
القلاعُ الضرسَ: دانت اکھیڑنے والے نے داڑھ
اکھیڑ ڈالی۔ نَتَخَتهُ المنيةُ من بين قومه: موت نے
اس کو قوم میں سے نکال لیا۔ ـ البازی اللحمَ: باز کا
جھپٹے سے گوشت لے اڑنا۔ ـ اليه ببصره: کو دیکھنا۔
المِنتاخ: زنبور، موچنا، چمٹا۔ نتختُ الشوكةَ مِن
رِجلي بالمنتاخ: میں نے موچنے سے کانٹا اپنے
پاؤں سے نکال ڈالا۔

۲۔ نَتَخَ ـ نَتخًا الثوبَ بالذهب: سونے کے تاروں سے
کپڑا بننا۔

۳۔ نَتَخَ ـ نَتخًا فلانًا: کو ذلیل کرنا۔

۴۔ نَتَخَ ـ نَتيخًا و نَتَخ بالمكان: کسی جگہ میں اقامت
کرنا ـــ علی مِلّةِ كذا: وہ کسی مذہب میں پختہ
ہو گیا۔

نتر: نَتَرَ ـ نَترًا الشيئَ: کو زور سے کھینچنا، اچک لینا۔
ـ القوسَ: کمان کھینچنا ـــ الثوبَ بالاصابع
او الاضراس: کپڑے کو انگلیوں یا دانتوں سے پھاڑنا،
ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الكلامَ: سخت کلامی کرنا ـــ ہُ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بالرمح: کو نیزہ زور سے مارنا۔ نَتِرَ ۔ نَتَرًا الشیُ: چیز کا خراب وضائع ہونا۔ انْتَتَر کھنچنا۔ ۔ فی مشیتہ: چلنے کا ارادہ کرنا۔ النَاتِرَۃ نوَاتِر کا مفرد۔ کمان جس کی تانت ٹوٹ گئی ہو۔ النَّتر (مص) کمزوری، سستی، سختی، کہاجاتا ہے فَبَاۃُ بنتر: میں اسے سختی سے ملا۔ طعنوا النتر: وہ ایک دوسرے سے نیزوں سے خوب لڑے۔ النَّتر وجمع نترات نتر کا اسم مرۃ، پار گزرنے والی ضرب، کہاجاتا ہے: کَلَّمتہُ مُنَاتِرَۃً: میں نے اس سے صاف صاف باتیں کیں۔

Ⓒ نَتَرَ ۔ نَتَرًا ھ کو زبردستی چھیننا، کو زور سے پکڑنا، کو جھٹکا دیکر چھین لینا، زبردستی لے لینا۔ نِتْرَات: نائٹریٹ (Nitrate) (ایک قسم کا تیزابی عنصر) نِتْرُوجِن: نائٹروجن (Nitrogen) (ایک گیس جو ہوا کا تقریباً 4/5 حصہ ہے)۔

نتش: ۱۔ نَتَشَ ۔ نَتْشًا الشوکۃ ونحوھا: کانٹا وغیرہ نکالنا۔ ۔ الشَعَرَ: بال اکھیڑنا، نوچنا، ۔ اللحمَ ونحوہ: چٹکی سے گوشت وغیرہ کھینچنا۔ ۔ الجرادُ الارضَ: ٹڈی کا سبزہ کھاجانا۔ الحجرَ برجلہ: پتھر کو پاؤں سے ہٹانا۔ ۔ الرجُلُ لِعیالہ: اہل وعیال کے لئے کمانا۔ ۔ ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا، کہاجاتا ہے: ما انتتشت من فلان شیئًا: میں نے فلاں سے کوئی چیز نہیں لی۔ نَتَّشَ وتَنَاتَشَ الرجُلَ: کی پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا۔ انْتَتَشَ النباتُ: نبات کا شروع شروع پھوٹنا۔ ۔ الحَبُّ: بیج کا بھیگ جانا اور شروع میں اگے ہوئے سبزہ کو زمین میں گاڑ دینا۔ ۔ الثوبُ: کپڑا پرانا ہونا، کہاجاتا ہے: ما اخذ الا نَتَشًا: اس نے صرف تھوڑا سا لیا۔ النَّتَش: شروع میں اگا ہوا سبزہ، ناخن کی جڑ کی سفیدی۔ نَاتِیش الدَین: قرض کا بقایا۔ المِنْتَاش: موچنا۔

Ⓒ نَتَشَ ۔ نَتْشًا ھ کو نکالنا، زور لگا کر نکالنا، پھاڑنا، چھیننا، جھپٹنا، مارنا۔

نتض: نَتَضَ ۔ نُتوضًا الجلدُ: بیماری سے کھال چھلکے دار ہونا، کہاجاتا ہے: انتصت السنُّ السنَّ: کھمبیوں کی طرح دانت کا نکل کر اونچا ہونا۔

نتع: نَتَعَ ۔ نُتوعًا الدم من الجرح او الماءُ من العین: خون کا زخم سے پانی کا چشمہ سے تھوڑا تھوڑا نکلنا۔ صفت: ناتع عوام کہتے ہیں نتعَہٗ: اس نے اس کو کھینچا۔ انتع الرجل کو بہت پسینہ آنا۔ القیءُ: بہت قے ہونا۔

Ⓒ نَتَعَ ۔ نُتوعًا: پانی کا پھوٹ نکلنا، بلبلے اٹھانا، قطرہ قطرہ ہوکر گرنا، بہنا، ٹپکنا، خارج ہونا، نکلنا۔ قطرہ قطرہ ٹپکنا۔

۔ ہٗ: کو لیجانا، اٹھانا، اونچا کرنا۔

نتغ: نَتَغَ ۔ نُتغًا الرجُلَ: پر عیب لگانا، کی غیبت کرنا۔ أنْتَغَ: ہنسی اڑانا۔ ۔ ہٗ: کی غیبت کرنا۔ المِنْتَغ غیبت کرنے کا عادی۔

نتف: نَتَفَ ۔ نَتْفًا الریشَ او الشعرَ ونحوہ: بال وپر وغیرہ اکھیڑنا، نوچنا۔ ۔ فی القوس: کمان کو آہستہ کھینچنا۔ نَتَّفَ الریشَ او الشعرَ ونحوہ: بال وپر وغیرہ اکھیڑنا۔ أنْتَفَ الکلاءُ: گھاس کا اکھیڑے جانے کے قابل ہوجانا۔ تَنَتَّفَ وتَنَاتَفَ الشعرُ او الریشُ: بال وپر اکھڑنا۔ انْتَتَفَ الریشَ او الشعرَ ونحوہ: بال وپر وغیرہ اکھیڑنا۔ ۔ الشعرُ او الریشُ: بال وپر اکھیڑا جانا۔ النَتِف: بال اکھیڑا ہوا، کہاجاتا ہے غرابٌ نَتِفُ الجناح: اکھیڑے ہوئے پروں والا کوا۔ النُتْفَۃ جمع نُتَف: انگلیوں سے اکھیڑی ہوئی نبات وغیرہ۔ کہاجاتا ہے: اعطاہُ نُتفَۃً من الطعام وغیرہ: اس نے اسے کھانے وغیرہ کی بہت تھوڑی مقدار دی۔ النُتَفَۃ: تھوڑا علم (وغیرہ) سیکھا ہوا شخص، سطحی شخص۔ النُتَاف والنُتَافۃ: اکھیڑنے سے گرے ہوئے بال وغیرہ۔ النَتُوف: داڑھی نوچنے کا شوقین۔ النَتِیف: بال اکھیڑا ہوا۔ المِنْتَاف: موچنا۔

Ⓒ نَتَفَ ۔ نَتْفًا ھ: بال وغیرہ اکھیڑنا۔ نکالنا، نوچنا۔ نَتَّفَ ھ بمعنی سابق۔ نُتْفَۃ جمع نُتَف: (بالوں کا) گچھا، (دھاگے وغیرہ کا) لچھا۔ تھوڑی مقدار، کسی چیز کا تھوڑا سا۔ نَتِیف: اکھاڑا ہوا، نوچا ہوا، نکالا ہوا، پھاڑا ہوا۔

نتق: ۱۔ نَتَقَ ۔ نَتْقًا الجرابَ: توشہ دان جھاڑنا۔ ۔ الشیءَ: کو اونچا کرنا، ہلانا، پھاڑنا، پھیلانا۔ ۔ الجلدَ: کھال کھینچنا۔ ۔ ت المرأۃُ او الناقۃُ: عورت یا اونٹنی کا بہت اولاد والی یا بچے والی ہونا۔ صفت ناتِق ومِنْتَاق ۔ نُتوقًا: موٹا ہوکر بھرجانا۔ ۔ نَتقًا ونُتوقًا الدابۃُ راکبھا و براکبھا: جانور کا اپنے سوار کو تھکا دینا۔ انْتَقَ: توشہ دان جھاڑنا، بہت اولاد والی عورت سے شادی کرنا۔ انْتَتَقَ الشیءُ: کھنچ جانا۔ ۔ الجرابُ: توشہ دان کا جھڑنا۔ الناتِق (فا): آگ نکالنے والا چقماق، اپنے سوار کو تھکا دینے والا گھوڑا۔ النَتق والنِتَاق فی اصطلاح العامہ: عوام کی اصطلاح میں، قے، وہ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں نتق: اس نے قے کی۔

۲۔ انْتَقَ: دوسرے کے مکان کے سامنے مکان بنانا۔ کہاجاتا ہے: بنی دارَہٗ بِنِتَاق داری۔ اس نے اپنا گھر میرے گھر کے سامنے بنایا۔

نتل: ۱۔ نَتَلَ ۔ نَتْلًا الشیءَ: چیز کو اپنے آگے (کی طرف) کھینچنا۔ ۔ الجرابَ: توشہ دان جھاڑنا اور اس میں موجود چیزوں کو نکال دینا۔ ۔ نَتْلًا ونُتولًا ونَتَلانًا من بین اصحابہ: ساتھیوں سے آگے بڑھ جانا۔ تَنَاتَلَ النبتُ: نباتات کا گنجان ہونا، اور بعض کا بعض سے لمبا ہونا۔ اِنْتَتَلَ: سبقت لیجانا۔ اِسْتَنْتَلَ من بین اصحابہ: ساتھیوں سے آگے بڑھ جانا۔ ۔ للامر: کام کے لئے تیار ہونا۔ ۔ القومُ علی الماء: پانی پر پہلے پہنچنا۔ النَتْل والنَتَل: پانی سے بھرے ہوئے شترمرغ کے انڈے، جو سردیوں میں ریت میں دبائے جاتے ہیں۔ سخت گرمی میں جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان پر قبضہ کرکے ان میں سے پانی نکال کر پیتے ہیں۔ النَتِلَۃ: وسیلہ۔ قرابت

۲۔ نَتَلَ ۔ نَتْلًا فلانًا: کو جھڑکنا۔

نتن: نَتَنَ ۔ ونَتِنَ ۔ نَتْنًا ونَتُنَ ۔ نَتَانَۃً ونُتونَۃً وأنْتَنَ: بدبودار ہونا صفت نَتِن ونَتِین ومُنْتِن ومِنْتِن مونث نَتِنۃ ونَتْنَی (جیسے زَمِن وزَمْنَی) نَتَّنَ الشیءَ: کو بدبودار کرنا۔ النَیْتُون (ن): ایک بدبودار درخت۔ المِنْتِین جمع مَنَاتِین: بدبودار، کہاجاتا ہے۔ رجالٌ او آباطٌ مَنَاتِین: بدبودار آدمی، بدبودار بغلیں۔ المَنَاتِن واحد مَنْتَن: بدبودار جگہیں۔

Ⓒ نَتَنَ ۔ نُتِنَ ۔ نَتْنًا ونَتُنَ ۔ نَتَانَۃً ونُتونَۃً: بدبودار ہونا، گلنا، سڑنا، گلا سڑا ہوجانا، سخت گندا یا خراب ہو جانا۔ نَتَّنَ ھ کو گلانا سڑانا۔ انْتَن: بدبودار ہونا، گلنا سڑنا، نَتْن ونَتَانَۃ: بدبو، سڑاند، عفونت، گلنا سڑنا، بوسیدگی، نَتِن: بدبودار، گلا، سڑا، بخل کا بخل والا، کنجوس، بخیل، مُنَتَّن: گلا سڑا، مُنْتِن: بدبودار، گلا سڑا۔

نتو: نَتَا یَنْتُو نُتوًّا العضوُ: عضو کا متورم ہونا سوجنا صفت: نَاتٍ۔ انْتَی إنتاءً: پیچھے ہٹنا، تاخیر کرنا۔ ۔ ہٗ: کا ہم شکل وہم سیرت ہونا، شکل وسیرت میں کے موافق ہونا۔ تَنَتَّی علیہ: پر حملہ کرنا۔ اِسْتَنْتَی اِسْتِنْتَاءً الدمَّلُ: پھنسی پھوٹنا۔

نث: نَثَّ ۔ نَثًّا الخبرَ: خبر افشا کرنا۔ ۔ الجرحَ: زخم پر تیل لگانا، مرہم لگانا۔ ۔ نثًّا ونَثِیثًا الزِقُّ: مشک کا رسنا۔ ۔ الرجُل: موٹاپے کی وجہ سے پسینہ دار ہونا۔ ۔ العظمُ: ہڈی سے چربی بہنا۔ تَنَاثَّ القومُ الاخبارَ: ایک دوسرے کو خبریں بتانا۔ النَثّ (مص): نمناک دیوار۔ النِثَاث: زخم پر ملنے کا تیل۔ النَثَّاث والمِنَثّ: بات یا راز کو بہت پھیلانے والا۔ النُثَاث: غیبت کرنے والے۔ مفرد: نَاثّ۔ النَثِیثَۃ: مشک سے ٹپکا ہوا۔ المِنَثَّۃ جمع مَنَاثّ و مِنثَات: اون کا ٹکڑا جس کے ساتھ زخم پر تیل لگایا جاتا ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نشج: نَشَجَ ـِ نَشْجًا بطنهُ بالسكين: چھری سے پیٹ پھاڑنا ـــ فی مابطنه آنتوں کو خالی کرنا۔ اِسْتَنْشَجَ احدُ العدِلَيْنِ: ایک طرف کا بوجھ ڈھیلا ہونا۔ النِشج بزدل بے خیر۔ المِنْشَجَة: سرین۔

نشد: نَشِدَ ـُ نُشُودًا الرجلُ: ٹھہرنا ـــ ت الكلماةُ سانپ کی چھتری کا اگنا۔

نثر: ا۔ نَثَرَ ـُ نَثْرًا و نِثَارًا: نثر میں کلام کرنا۔ الشيءَ کو بکھیرنا، چھڑکنا۔ الدرعَ عنه: زرہ کو اتار دینا، کہا جاتا ہے نثرت المرأة بطنها عورت کے بہت بچے ہوئے اخذ فلانٌ درعًا فنثرها على نفسه: فلاں نے زرہ لی اور اسے اپنے اوپر پھیلا لیا ـــ ـِ نَثِيرًا تِ الدابّةُ: جانور کا چھینکنا۔ کہا گیا کہ نثیر جانوروں اور انٹوں کے لئے اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عطاس لوگوں کے لئے۔ نَثَّرَ الشيءَ کو بکھیرنا۔ اَنْثَرَ ناک جھاڑنا ـــ ہُ کو ناک کے بل گرانا۔

تَنَثَّرَ الشيءُ: بکھرنا۔ تَناثَرَ الشيءُ: بکھرنا کہا جاتا ہے۔ تَنَاثَرَ القومُ لوگ بیمار ہو کر مر گئے۔ اِنْتَثَرَ الشيءُ بکھرنا ـــ و اِسْتَنْثَرَ: ناک میں پانی ڈال کر اس کو جھاڑنا۔ النّاثِر (فا): نثر بولنے والا یا لکھنے والا۔ نخلة ناثِر: کچی کھجوریں گرانے والا کھجور کا درخت۔ النَثْر (مص): نثر، جو منظوم نہ ہو۔ النَثْرة: نثر کا اسم مرہ۔ نثر کا ایک ٹکڑا، نتھنا اور اس کا اردگرد، چھینک۔ نَثْـرَةُ الأسد (فلك): دو ستارے جن کے درمیان بالشت بھر حصہ سفیدی کا دھبا ہوتا ہے۔ گویا بادل کا ٹکڑا ہو۔ اسے انف الاسد بھی کہا جاتا ہے۔ قمر کی ایک منزل۔ النَثَر: بکھری ہوئی چیز۔ المِنثر و المِنثَر و النَيْثُران: باتونی، راز افشا کرنے والا۔ النُثار و النُثارة: بکھری ہوئی چیزیں۔ النِثار (مص): روپیہ پھل وغیرہ جو شادی کے موقعہ پر لوگوں میں بکھیرا ہوتا ہے۔ رجلٌ نثورٌ و امرأةٌ نثور: بہت اولاد والا مرد بہت اولاد والی عورت۔ النَثِير: بکھیرا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ کانّ لفظهٗ نثیر الدرّ و الدرّ النثیر: جیسے اس کا لفظ بکھرا ہوا موتی ہے۔ المِنْثار: کچی کھجوریں گرانے والا کھجور کا درخت۔ المُنَثَّر (مفع): کمزور، ناکارہ بے خیر۔ عند العامة (عوام کے نزدیک): رنگین نقوش والا کپڑا، اکثر لوگ ثا کو تا بولتے ہیں۔ المَنْثُور (مفع) ـ واحد مَنْثُورة (ن): ایک تیز خوشبو والا پودا ـــ من الكلام: غیر منظوم، نثر۔

۲۔ النَثْرة: کشادہ زرہ۔

۳۔ نَثَرَ ـُ نَثْرًا و نِثَارًا ہ علی: کو پر بکھیرنا، منتشر کرنا، پھیلانا، چھڑکنا ـــ ہ: کو نثر میں لکھنا۔ نَثَّرَ ہ: کو ادھر ادھر بکھیرنا، منتشر کرنا، پھیلانا۔ تَناثَرَ و اِنْتَثَرَ: ادھر ادھر بکھرنا، پھیلنا، منتشر ہونا، واقع ہونا۔ نَثْر: بکھرا یا بکھیرنا، پراگندگی، انتشار، نثر۔ نَثْرِی: نثر کا، نثر کے متعلق، نثری، نثر میں، تھوڑا، کم، غیر اہم، معمولی، ادنیٰ سا، ناچیز، ذرا سا، قلیل۔ نَثْرِيات: متفرقات، متفرقات کا مجموعہ۔ مصاریفُ نثريَّة: ہنگامی اخراجات، ضمنی اخراجات۔ نُثار: بکھرے ہوئے ٹکڑے، تیرتے ذرات، دھول، گرد، غبار، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چمکدار رنگین، پرچیاں یا نچھاور کی جانے والی مٹھائیاں۔

نَثِير: بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، منتشر۔ تَناثُر: پراگندگی، انتشار۔ ناثِر: نثر لکھنے والا۔ نثر نویس۔ نثر نگار۔ مَنْثُور: بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، منتشر، نثری، نثر، ایک پودا جس میں خوشبودار پھول آتے ہیں۔ ایک قسم کا پھول جس سے لونگ کی خوشبو آتی ہے۔ مُتَناثِر: بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، منتشر۔

نشط: ا۔ نَشَطَ ـُ نَشْطًا و نُشُوطًا: کو خاموش کرنے کے لئے زمین پر دبانا۔ فلانًا کو بوجھل کرنا ـــ نَشْطًا و نُشُوطًا: ساکن ہونا، قرار پانا۔ نَشَّطَهٗ: کو خاموش کرنا، ٹھنڈا کرنا، آرام دینا۔

۲۔ نَشَطَ ـُ نُشُوطًا تِ الكمأةُ: سانپ کی چھتری کا زمین سے نکلنا۔

نثع: اَنْثَعَ: بہت قے کرنا ـــ القيءُ او الدمُ: قے یا خون کا نکلنا۔

نثل: ا۔ نَثَلَ ـُ نَثْلًا الفرسُ و كلُّ ذي حافرٍ: گھوڑے اور ہر سم والے جانور کا لید کرنا ـــ ـُ نَثْلًا البئرَ: کنویں سے مٹی نکالنا۔ الجرابَ: توشہ دان جھاڑ کر خالی کرنا۔ الكِنانةَ: ترکش کو تیروں سے خالی کرنا اور انہیں بکھیرنا ـــ الدرعَ عنه: زرہ کو سے اتارنا، پھینکنا۔ کہا جاتا ہے۔ نُثِلَتْ حفرتُهٗ: اس کی قبر کھودی گئی۔ أَنْثَلَ البئرَ: کنویں سے مٹی نکالنا۔ اِنْتَثَلَ البئرَ و الجرابَ و الكنانةَ: کنویں سے مٹی نکالنا، توشہ دان جھاڑ کر خالی کرنا، ترکش سے تیر نکال کر بکھیرنا ـــ الدرعَ عنه: سے زرہ اتارنا، پھینکنا۔ اِسْتَنْثَلَ الكِنانةَ: ترکش کو تیروں سے خالی کر کے انہیں بکھیرنا۔ النَثَل: کھودا ہوا، کہا جاتا ہے۔ بئرٌ نَثَلٌ: تمہارا کنواں کھودا ہوا ہے۔ النَثْلة: نَثَل کا اسم مرہ۔ النُثالة: کنویں سے نکلی ہوئی مٹی۔ بقیہ۔ النَثِيل: لید، گوبر۔ النَثِيلة: کنویں سے نکلی ہوئی مٹی۔ المِنْثَلة: زنبیل۔

۲۔ نَثَلَ ـُ نَثْلًا علی فلان درعه: کو زرہ پہنانا ـــ اللحمَ في القدرِ: گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالنا۔ تَناثَلَ القومُ اليه: پر اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ اِنْتَثَلَ على فلان درعه: کو زرہ پہنانا ـــ اللحمَ في القدرِ: گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالنا۔ النَثْلة: کشادہ زرہ۔ النَثِيلة: موٹا گوشت۔

۳۔ النَثْلة: مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔

نثم: نَثَمَ ـِ نَثْمًا و اِنْتَثَمَ: فحش بکنا۔

نثو: نَثَا يَنْثُو نَثْوًا الحديثَ: بات پھیلانا۔ الشيءَ کو متفرق کرنا ـــ فلانًا: کی غیبت کرنا۔ عليه قولًا: کی طرف سے بات کی خبر دینا۔ تَنَاثَى القومُ الحديثَ: ایک دوسرے میں بات پھیلانا ـــ القومُ الشيءَ: ایک دوسرے کو کوئی یاد دلانا۔ الناثي (فا): غیبت کرنے والا۔ النَثا: کسی کے بارے میں اچھی یا بری خبر۔ النَثْوة: لوگوں کی عیب جوئی۔

نثی: نَثَى يَنْثِي نَثْيًا الخبرَ: خبر بیان کرنا، پھیلانا۔ أَنْثَى فلانًا: کی غیبت کرنا ـــ من الشيء: پر ناک چڑھانا۔

نج: ا۔ نَجَّ ـُ نَجًّا الشيءَ من فيه: کو منہ سے پھینکنا ـــ ـِ نَجًّا و نَجِيجًا تِ القرحةُ: زخم سے پیپ وغیرہ بہنا۔ الرجلُ: جلدی کرنا۔ صفت نَجُوج۔

۲۔ نَجْنَجَ نَجْنَجَةً في رأيه: کی رائے پر تحیر و مضطرب ہونا۔ الشيءَ: کو ہلانا۔ تَنَجْنَجَ الرجلُ: متحیر ہونا ـــ الشيءُ: متحرک ہونا۔ ہلنا۔ الامرَ: کا پختہ ارادہ نہ کرنا۔

۳۔ نَجْنَجَ نَجْنَجَةً تْ عينهُ: کی آنکھ کا دھنسنا۔ الابلَ: اونٹوں کو چراگاہ سے روکنا، پانی سے واپس کرنا ـــ فلانًا عنه: کو سے منع کرنا۔

نجا: نَجَأَ ـَ نَجْأً و نُجُوءًا و نُجَأةً: کو نظر بد لگانا۔ رجلٌ نَجُوءُ العينِ و نَجُوؤها و نَجِئُها و نَجِيئُها: بد نظر، بہت بد نظر لگانے والا۔ النُجْأة السائلِ: درویش کی کھانے کی طرف بہت للچائی ہوئی نظر۔ اسی سے ہے ضرب المثل رُدُّوا نَجْأةَ السائل باللقمة: سوالی کو کچھ کھانے کو دے کر اسے اپنے کھانے کی طرف للچائی ہوئی نظر سے روکو۔

نجب: انجب ـُ نُجْبًا و نَجَبَ الشجرةَ: درخت کی چھال اتارنا۔ نَجُبَ ـُ نَجَابةً الولدُ: بچے کا شریف الاصل ہونا۔ اچھے صفات والا ہونا صفت نجیب۔ أَنْجَبَ: شریف الاصل ہونا، اچھے صفات والا ہونا ـــ الرجلُ: شریف اولاد کا باپ ہونا کہا جاتا ہے أَنْجَبَ به ابواه: اسے ماں باپ نے شریف النسل جنا۔ اِنْتَجَبَ الشيءَ: کو چننا، پسند کرنا ـــ الشجرةَ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

درخت کی چھال اتارنا۔ اِسْتَنْجَبَ: شرفاء کا طالب ہونا۔ النَجِبُ: سخی، شریف۔ النَجَبُ من الشجر (ن): درخت کی چھال یا جڑوں کی چھال۔ النُجَبَة: سخی، شریف۔ النَجَابَة: نَجبَ کا مصدر، خاندانی شرافت۔ النجیب جمع اَنْجَاب و نُجَباءُ نُجُب م نجیب و نجیبة جمع نَجَائِب: شریف، شریف خاندان، عمدہ، اعلیٰ۔ نَجَائِبُ الشی: چیز کے خالص حصے، گودا، مغز جس پر چھلکا نہ ہو۔ نَواجِبُ الشی: گودا، مغز جس پر چھلکا نہ ہو۔ المِنْجَاب (مذکر و مونث) جمع مَناجِیب: شریف بیٹوں والا۔ شریف بیٹوں والی۔ المُنْجِب جمع مَناجِب م مُنْجِبَة: شریف بیٹوں والا۔

۲۔ أنجبَ الرجلُ: بزدل بیٹے کا باپ ہونا۔

ک نَجُبَ ۔ نَجَابَةً: خاندانی ہونا، امیرانہ انداز والا ہونا، عالی نسب ہونا، شریف ہونا، ممتاز ہونا، عمدہ و اعلیٰ ہونا، عالی منش ہونا، عالی ظرف ہونا، سخی و فیاض ہونا، فراخدل ہونا۔ اَنْجَبَ: اوپر والے معنی۔ نیز اَنْجَبَ: بچہ کو جنم دینا، جننا، کا باپ ہونا۔ اَنجب منها: کے اس (عورت) سے بچے ہونا۔ انْتَجَبَ و اِسْتَنْجَبَ ہ: کو چننا، منتخب کرنا، پسند کرنا، (میں سے) چن لینا، نَجُب و نُجَبَة: عالی منش، عالی ظرف، فیاض، سخی، فراخدل۔ نَجَابَة: شرافت، نجابت، شریف نسب، بلند منصب و مقام، بزرگی، فضیلت، سربلندی، وجہ و شرف بنائے فضیلت، برتری کمال۔ نَجیب جمع نُجُب و نُجَباء و انجاب: شریف النسل، خاندانی، شریف، ممتاز، امیرانہ، خاندانی امیر، نجیب، عمدہ، اعلیٰ، برتر، نمایاں، افضل۔ نَجّاب: سانڈنی سوار، نامہ بر، قاصد، ہرکارہ۔ اِنتجاب: پسند، انتخاب، پسندیدگی۔

نحت: ۱۔ نَجَثَ ۔ نَجْثًا و تَنَجَّثَ الشیَ: کو نکالنا۔ ۔ عن الامر: پر بحث کرنا، نکتہ چینی کرنا۔ القومَ: سے فریاد کرنا، سے مدد کی اپیل کرنا۔ تَناجَثَ القومُ الاخبارَ: ایک دوسرے کو خبروں سے واقف کرنا۔ اِنْتَجَثَ الشیَ: کو نکالنا۔ اِسْتَنْجَثَ الشیَ: کو نکالنا۔ ۔ للشی: کے درپے ہونا۔ رجلٌ نَجِثٌ: خبروں کی جستجو رکھنے والا۔ النَجّاث: امور کی بہت چھان بین کرنے والا۔ النَجِیث: نشانہ، پوشیدہ راز، کہا جاتا ہے۔ بدا نجیثُ القوم: قوم کا پوشیدہ راز ظاہر ہو گیا۔ نجیثُ البئرِ: کنویں سے نکالی ہوئی مٹی۔ النجیثة: بری خبر جو ظاہر ہو جائے۔ نجیثةُ البئر: کنویں سے نکالی ہوئی مٹی۔

۲۔ النَحْثُ و النُحُث جمع اَنْجاث: دل کے اوپر کی جھلی۔

زرہ۔ النجیث: سست رفتار۔

نجح: نَجَحَ ۔ نَجْحًا و نُجْحًا و نَجَاحًا الامرُ: آسان ہونا، سہل ہونا۔ ۔ فلانٌ بحاجته: اپنی حاجت حاصل کرنا کہا جاتا ہے: اَنْجَحَ اللّٰهُ طلبتَك فنجحتَ: اللہ تعالیٰ نے تیری طلب میں تجھے کامیاب کیا۔ نَجَّحَ ہُ: کو کامیاب کرنا۔ کامیاب بنانا۔ اَنْجَحَ: کامیاب ہونا۔ ما اَفْلَحَ فلانٌ ولا اَنْجَحَ: فلاں شخص نہ تو خوش ہوا نہ کامیاب۔ کہا جاتا ہے۔ انجح اللّٰهُ حاجته: اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ ۔ ت حاجتُه: کی ضرورت پوری ہونا۔ جس کی ضرورت پوری ہو جائے اسے مُنجِح جمع مَناجِح و مناجیح کہتے ہیں۔ ۔ الباطلُ بفلان: فلاں پر باطل کا غالب آنا۔ ۔ فلانٌ بالباطل: فلاں کا باطل پر غالب ہونا۔ تَنَجَّح الحاجةَ: وعدہ کرنے والے سے حاجت روائی کا تقاضا کرنا۔ تَناجَحَت علیه احلامُهُ او مساعیه: کے خوابوں یا کوششوں کا برابر سچا نکلنا۔ اِسْتَنْجَحَ فلانًا حاجتَهُ: سے اپنی ضروری پوری کرنے کے لئے کہنا۔ المناجح فا۔ سیرٌ ناجح: بہت تیز چال۔ النُجح و النَجاح نَجَحَ کے مصدر یا اسم ہیں۔ النَجَاحة: صبر۔ النَجیح م نَجیحَة: صائب الرای (کہا جاتا ہے: رایٌ نجیح: صائب رائے) جس کے امور کامیاب ہوں۔ صبر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: نفسٌ نَجیحَة: صابر نفس سیرٌ نجیح: تیز اور جفاکش چال۔ مکانٌ نجیحٌ: قریب جگہ۔

ک نَجَحَ ۔ نَجْحًا و نُجْحًا و نَجَاحًا: اچھا یا ٹھیک ہونا یا نکلنا یا ثابت ہونا، کامیاب ہونا۔ ۔ فی: میں کامیاب ہونا، کامیابی حاصل کرنا۔ ۔ فی الامتحان: امتحان پاس کرنا۔ امتحان میں کامیاب ہونا۔ نَجَّح و اَنْجَح ہُ: کو کامیابی عطا کرنا۔ ھ / ہ: کو کامیاب ہونے دینا، کامیاب کرنا۔ ۔ ھ: کو کامیاب یا کامران بنانا۔ نُجْحٌ: موافق اور کامیاب نتیجہ، خوش آئند انجام یا خاتمہ، کامیابی، تسلی بخش ارتقا، نشوونما یا ترقی، اچھی ترقی، نَجَاح: مناسب اور کامیاب نتیجہ، خوش آئند انجام، کامیابی، کامرانی، تسلی بخش ارتقا، نشوونما، یا ترقی، اچھی ترقی، (امتحان) پاس کرنا۔ لَقِیَ نجاحًا: کامیابی حاصل کرنا، کامیاب ہونا، کامیابی سے ہمکنار ہونا، نَجیح: درست یا دانشمندانہ (مشورہ، رائے) اِنجاح: کامیابی، ناجح: کامیاب، پاس (ہونے والا)، جس نے (امتحان) پاس کر لیا ہو۔

نجخ: ۱۔ نَجَخَ ۔ نَجْخًا النوءُ: بچھتر کا جوش میں آنا۔ ۔ السیلُ: سیلاب کا یکایک امنڈ آنا۔ البئرَ: کنواں کھودنا۔ تَناجَخَ الموجُ: موج کا ٹکرانا۔ الناجِخ (فا): کھانسنے والا، شور کرنے والا سمندر۔ ناجخ البحر: سمندر کا شور۔ سیلٌ ناجخٌ: بہت تیز بہنے والا اور زمین میں گڑھے ڈالنے والا سیلاب۔ ناجخةُ الماء: پانی کی آواز۔ النَجاخ: کھانسنے والے کی آواز۔ نَجَخاتُ الماء: پانی کی بوچھاریں۔ النَجُوخ: شور کرنے والا سمندر۔ نجیخ الماء: پانی کی آواز۔

۲۔ نَجَخَ ۔ نَجْخًا: فخر کرنا۔ تَناجَخَ الرجلان: آپس میں فخر کرنا۔

۳۔ نَجِخَ ۔ نَجَخًا البعیرُ: اونٹ کا بدہضمی والا ہونا صفت نَجِخٌ۔

نجد: ۱۔ نَجَدَ ۔ نَجْدًا ہُ: پر غالب آنا، کی مدد کرنا۔ ۔ نُجُودًا: واضح ہونا، ظاہر ہونا صفت نَاجِد و نَجْد۔ ۔ الامرُ: واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ ۔ الشیُ من الارض: چیز کا زمین سے نکلنا۔ ۔ البدنُ عرَقًا: بدن سے پسینہ بہنا۔ نَجِدَ ۔ نَجَدًا: تھکنا۔ الرجُلُ: کو کام یا گھبراہٹ سے پسینہ آنا صفت نَجِد۔ نَجُدَ ۔ نَجْدَةً و نَجَادَةً: بہادر ہونا، دوسروں سے جو کام نہ ہو سکیں ان کو کر گزرنا۔ نُجِدَ نَجْدًا الرجُلُ: غمگین ہونا صفت مَنْجُود و نَجِید۔ نَجَّدَ الرجُلُ: دوڑنا۔ ۔ الدهرُ فلانًا: کو زمانہ کا تجربہ کار بنانا۔ البیتَ: گھر سجانا۔ النَجَّادُ الفرشَ: فرش ساز کا فرش کو درست کرنا، سینا۔ نَاجَدَ مُنَاجَدَةً ہُ: کی مدد کرنا، کو لڑائی کیلئے نکالنا، کی مخالفت کرنا، اَنْجَدَ البناءُ: عمارت کا بلند ہونا۔ ۔ ہُ: کو مدد دینا۔ الدعوةَ: دعوت قبول کرنا۔ ۔ الرجُلُ: پسینہ بہانا۔ ملک نجد میں آنا یا جانا۔ ۔ ت السماءُ: آسمان کا صاف ہونا۔ بے ابر ہونا۔ تَنَجَّدَ الشیُ: اونچا ہونا۔ اِسْتَنْجَدَ: بہادر ہونا۔ ۔ فلانٌ: کمزوری کے بعد قوی ہونا۔ ۔ فلانًا و به: سے مدد چاہنا۔ ۔ علیه: پر دلیر ہونا، جس سے وہ پہلے ڈرتا تھا۔ النَاجِد م نَاجِدَة جمع نَواجِد (فا) النَواجِد: چربی کی دھاریاں۔ النَجْد (مص): بلند راستہ، پستان، غم، بے چینی، ماہر رہنما۔ جمع اَنْجُدُ و نُجُد و نِجَادِ و نُجُود و اَنْجَاد و اَنْجِدَة: بلند زمین، کہا جاتا ہے۔ هو طَلّاعُ اَنْجُدٍ و اَنْجِدَةٍ و نِجَادٍ و طلّاعُ النِجاد: وہ کاموں کا منتظم اور مشکلات کو اچھی طرح سر کرنے والا ہے۔ ۔ جمع نِجاد و نُجود: گھر کو زیبائش دینے والی اشیاء جیسے فرش، دریاں، تکیے وغیرہ۔ رجُلٌ نَجُدٌ جمع اَنْجاد: بہادر اور ایسے کام کر گزرنے والا جو دوسرے نہ کر سکے ہوں۔ دعوت کو جلد قبول کرنے والا۔ نَجُد:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سعودی عرب کے ایک صوبے کا نام۔النَّجد جمع
أنجاد: پسینہ، گھر کا سامان جیسے فرنیچر، پردے وغیرہ۔
رَجُلٌ نجد و نُجُدٌ جمع أنجاد بمعنی رجُلٌ
نَجْدٌ۔النَّجدَۃ (مص)، جمع نَجدات، اسم مرۃ۔
شجاعت لڑائی، سختی، قوت، طاقت، (کہا جاتا ہے لاقی
فلانٌ نجدۃ: فلاں نے سختی کا سامنا کیا)۔ گھبراہٹ۔
النجاد: تلوار کا پرتلہ طویل النجاد: طویل قامت
سے کنایہ ہے۔النِّجادۃ: فرش سازی کا پیشہ۔صوفہ
سازی کا پیشہ۔النَّجّاد: فرش ساز، صوفہ ساز۔
نُجُودُ البیت: مکان کی آرائش کیلئے دیواروں کے
پردے۔النَّجُود من النساء، جمع نُجُد: شریف
زادی، خاندانی عورت، عقلمند عورت۔ من الابل و
الأُتُن: لمبی گردن والی اونٹنی یا گدھی۔ جو چلنے میں آگے
رہنے والی ہو۔النجید جمع نُجُد و نُجَداء: بہادر اور
ایسے مشکل کام کرنے والا جو دوسرے نہ کرسکیں ۔۔۔
(ح): شیر، غمگین۔رجُلٌ مِنجاد: بہت مدد کرنے والا
المِنْجَد جمع مَناجد: چھوٹا پہاڑ، موتیوں اور سونے کی
مالا۔المِنْجَدَۃ جمع مَناجد: جانور کو ہانکنے کی لاٹھی اون
وغیرہ دھننے کی لکڑی یا آلہ۔المَنْجُود (مفع): غمگین۔
۲ نَجِدَ ۔ نَجَدًا: کندذہن ہونا۔
۳ أَنْجَدَ الرجُلُ: اپنے اہل سے قریب ہونا۔
۴ النَّاجُود جمع نَواجید: شراب کا برتن، شراب (ن)
زعفران۔النَّجد: جگہ جہاں کوئی درخت نہ ہو۔
النَّجود جمع نَواجید: خون۔المنجود: ہلاک
ہونے والا۔
ﺿ نَجَدَ ۔ نُجْدًا ہ: کی مدد کرنا، کو مدد دینا، کی تائید کرنا، کا
ساتھ نہ چھوڑنا۔نَجَدَ ۔ نَجَدًا: کو پسینہ آنا۔نَجَّدَ ہ
کو ساز و سامان سے آراستہ کرنا، میں فرنیچر لگانا، کی
پوشش کرنا، (کمرے میں) پردے وغیرہ لگانا ۔۔۔
القطنَ: روئی تو منا، تو منا، دھنا۔ناجَدَ بمعنی نَجَدَ۔
أَنْجَدَ بمعنی نَجَدَ نیز أَنجَدَ: عرب کے پہاڑی علاقہ
میں سفر کرنا۔استَنجَدہ: سے مدد طلب کرنا۔ سے مدد
کی اپیل کرنا۔ ب: سے مدد طلب کرنا ۔۔۔ علی:
کے ساتھ بیجا، بے تکلفی سے پیش آنا (یا سے کام لینا)
نَجد جمع نِجاد: پہاڑی علاقہ، کوہستان، اونچا علاقہ،
سطح مرتفع (Plateau) عرب کا پہاڑی علاقہ جسے نجد
کہتے ہیں۔نجدی: نجد کا، نجدی، نجد کا باشندہ
نَجدۃ جمع نَجدات: مدد، امداد، آڑے، یا آڑے وقت پر یا
میں مدد، امداد، اعانت، تائید، حمایت، ہنگامی صورت
حال، بحران، مصیبت، مشکل، سخت خطرہ، آفت،
بدبختی، ہمت، دلاوری، جرات، شجاعت، دلیری، بے
خوفی جمع نَجَدات: کمک Reiforcement۔
النجدۃ النِجدۃ: مدد، مدد بولیس النجدہ: ہنگامی
پولیس، بلوہ توڑ پولیس نِجاد: پرتلہ طویل
النجاد: لمبا، لمبا تڑنگا نَجّاد: پوشش والا، صوفے
بنانے والا جمع نَجّادۃ: ایک قسم کا بوائے سکاؤٹ (شام
میں) نِجادۃ: صوفہ ساز کا پیشہ، صوفہ سازی، صوفے
کرسیاں وغیرہ کمرے کا ساز و سامان تنجید:
کرسیوں اور صوفوں میں کمانیاں اور گدے لگانا،
غلاف چڑھانا، پردے لگانا، ایسے کام۔
نجذ: ۱ نَجَذَ ۔ نَجْذًا ہ: کو داڑھوں سے کاٹنا، پر اصرار
کرنا۔نَجَّذَہ: کا تجربہ کرنا، کو تجربہ کار بنانا۔نَجَّذَتْہُ
التجارِبُ: کو تجربوں کا تجربہ کار بنانا۔نَجَّذَتْہُ البلایا:
مصیبتوں میں مبتلا ہونا۔الناجذ (فا) نواجذ کا واحد:
داڑھ، کہا جاتا ہے عَضَّ علی ناجذہ: وہ بالغ
ہوگیا ضحک حتی بدت نواجذُہ: وہ بہت ہنسا۔
ابدت الحربُ ناجذیھا: جنگ شدت اختیار کرگئی۔
عَضَّ الرجُلُ علی ناجذیہ: مرد نے صبر کیا۔
۲ المَناجذ: جُلْذ کی جمع چھچھوندریں۔
ﺿ نَجَذَ ۔ نَجْذًاہ: کے پیچھے پڑجانا سے اصرار کرنا، پر مصر
ہونا۔مَناجذ: چھچھوندریں، کور موشیں۔ناجذ جمع
نَواجذ: داڑھ۔ابدی عن نواجذہ: اپنے دانت
دکھانا ۔۔۔ ل: سے معاندانہ اور دھمکی آمیز رویے کا
مظاہرہ کرنا۔عَضَّ بالنواجذ: دانت پیسنا عضّ
علی ناجذیہ: بالغ ہونا۔عضّ بالنواجذ علی:
کے ساتھ ہٹ دھرمی سے چمٹ جانا، سے مستقل مزاجی
سے وفاداری کرنا۔
نجر: ۱ نَجَرَ ۔ نَجَرًا الیومُ: دن کا گرم ہونا۔ الماءَ:
گرم پتھروں سے پانی گرم کرنا۔نَجِرَ ۔ نَجَرًا: کو
سخت پیاس لگنا۔نَجَّرَ فلانًا: کو دودھ اور آٹے کا بنا ہوا
کھانا پیش کرنا۔الناجر: گرمیوں کے مہینوں میں سے
ہر ایک مہینہ۔النَّجر (مص): گرمی۔النَّجَر: سخت
پیاس، نہ بجھنے والی پیاس۔ابلٌ نجرۃ: سخت پیاسے
اونٹ۔النَّجْران: پیاسا۔ابل نجری و نجاری:
سخت پیاسے اونٹ۔النجیرۃ: گرم پتھروں پر گرم کیا
ہوا پانی (ط): دودھ آٹے اور گھی سے تیار کیا ہوا کھانا۔
المِنجرۃ: گرم پتھر جس سے پانی گرم کیا جاتا ہے۔
۲ نَجَرَ ۔ نَجْرًا الخشبَ: لکڑی کو چھیلنا اور ہموار کرنا۔
النَّجر: اصل، حسب۔النِّجار و النُّجار: اصل،
حسب۔النِّجارۃ: بڑھئی کا پیشہ۔النُّجارۃ: لکڑی کی
چھیلن۔النَّجران: دروازہ کی چولی۔النَّجّار:
بڑھئی۔[illegible]
ہے۔لأُنْجُرَنَّ نَجِیرَکَ: میں تمہیں تمہارے حق
کے مطابق انعام دوں گا۔الأَنجر و الأنجرۃ جمع
اَناجر: کشتی یا جہاز کا لنگر (فارسی لفظ)۔المِنْجَر: رندہ
(لکڑی ہموار کرنے کا آلہ)۔المَنْجُور (مفع):
کنویں سے پانی نکالنے کی چرخی۔المِنجیرۃ:
بانسری۔
۳ نَجَرَ ۔ نَجْرًا الرجُلَ: کو مار کر ہٹانا۔ الابلَ:
اونٹوں کو ہانکنا۔المِنْجَر: اونٹوں کو بہت تیز ہانکنے
والا۔
۴ نَجَرَ ۔ نَجْرًا الشیءَ: کا ارادہ کرنا۔المَنْجَر: مقصد جو
راستہ سے ہٹا ہوا نہ ہو۔
۵ النَّجر: رنگ۔النِّجار و النُّجار: رنگ۔
ﺿ نَجَرَ ۔ نَجْرًا ہ: لکڑی کاٹنا، پر منبت کاری کرنا، کندہ
کاری کرنا، کندہ کرنا، کو ہموار کرنا، پر رندہ کرنا۔نَجْرٌ:
گرمی، دن کا گرم وقت۔نَجّار جمع نَجّارون: بڑھئی،
فرنیچر بنانے والا، فرنیچر ساز، لکڑی کا ہلکا کام کرنے
والا۔نُجار: اصل، حسب، نسل، جڑ۔نُجارۃ: لکڑی
کی چھیلن۔نِجارۃ: بڑھئی کا کام، فرنیچر سازی۔مِنجر
جمع مَناجر: رندہ۔مَنجُور: چرخی، پن پہیہ، بڑھئی کا
کام، تختہ بندی، لکڑی کا حاشیہ۔
نجز: نَجَزَ ۔ نُجْزًا الحاجۃَ: ضرورت پوری کرنا۔
بالوعد: وعدہ میں جلدی کرنا۔الوعدُ: حاضر ہونا،
جلدی ہونا، پورا ہونا۔نَجِزَ ۔ نَجَزًا الشیءُ: ختم
ہونا، فنا ہونا۔الکلامُ: کلام منقطع ہونا۔نَجَّزَ
الحاجۃَ: ضرورت پوری کرنا۔ الشیءُ: ختم ہونے
کے قریب ہونا (عوامی زبان میں)۔ فی عملہ:
کام پورا کرنے کے قریب ہونا (عوامی زبان میں)۔
ناجَزَہُ: کے مقابلہ پر نکلنا، سے لڑائی کرنا، اس سے
ضرب المثل ہے۔المُحاجزۃ قبلَ المُناجزۃ:
(جنگ سے پہلے مصالحت ہونی چاہیئے) اس شخص کے
بارے میں بیان کی جاتی ہے جو لڑائی کے بعد مصالحت
کا طالب ہو۔أنجَزَ الحاجۃَ: ضرورت پوری کرنا۔
الوعدَ: وعدہ پورا کرنا، وفا کرنا، ضرب المثل أنجَزَ
حُرٌّ ما وَعَدَ: یہ ضرب المثل وعدہ، وفا کرنے کے
بارے میں بیان کی جاتی ہے کبھی وعدہ وفائی چاہنے پر
بھی بیان کی جاتی ہے۔ علی القتیل: مقتول کا کام
تمام کرنا۔تَنَجَّزَ الحاجۃَ او الوعدَ: حاجت روائی یا
وعدہ وفائی چاہنا ۔۔۔ الشرابَ: شراب پینے میں
اصرار کرنا۔تَناجَزَ القومُ: آپس میں لڑنا جھگڑنا۔
مقاتلہ کرنا۔استَنجَزَ الحاجۃَ او الوعدَ: حاجت
روائی اور وعدہ وفائی چاہنا۔الناجز: حاضر بوعد

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ناجِز: پورا کیا ہوا وعدہ۔ بِعتهُ ناجزًا بِناجِزِ: میں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ بیچا۔ نقد روپے پر فروخ کیا۔ لا يُبَاعُ غائب بناجز: غیر موجود چیز ادھار فروخت نہیں کی جاتی۔ النَّجْز والنَّجاز: حصول، وفا عہد، کہا جاتا ہے۔ انت على نَجْزِ حاجتِك: تو اپنا وعدہ پورا کرنے کے قریب ہے۔ النجيز: حاضر، نقد ج عدٌ

نجيز: پورا کیا ہوا وعدہ۔

نَجَزَ ـُ نَجْزًا ہ: کو بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، جامہ عمل پہنانا، کو انجام دینا، پورا کرنا، مکمل کرنا۔ نَجِزَ ــــ نَجَزًا: بجالایا جانا، کی تعمیل ہونا، عمل میں آنا، جامہ عمل پہننا، انجام پانا، پورا ہونا، مکمل ہونا، حاصل ہونا۔ نَجَّزَ ہ: کو بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، جامہ عمل پہنانا، کو انجام دینا، پورا کرنا، بروئے کار لانا۔ (خواہش وغیرہ) پورا کرنا۔ نَاجَزَهُ: سے لڑنا، جنگ کرنا، کے خلاف جدوجہد کرنا۔ أَنْجَزَ ہ: کو بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا۔ کو جامہ عمل پہنانا، کو انجام دینا، پورا کرنا، مکمل کرنا، بروئے کار لانا، کو درجہ کمال کو پہنچانا، (کام) کرنا، (کارروائی، آپریشن) کرنا (وعدہ) پورا کرنا (فرض) بجالانا، ادا کرنا، سے عہدہ برآ ہونا ـــ علی: کو ہلاک کرنا۔ اِسْتَنْجَزَ ہ: وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کرنا۔ وفائے عہد چاہنا۔ نجز و نِجَاز، تنجيز و إنجاز: تعمیل، کارروائی، بجا آوری، انصرام۔ عمل درآمد، نفاذ پر عمل، جامہ عمل پہنانا، عمل میں لانا، حصول، تکمیل، بروئے کار لانا، تکمیل، اتمام، سرانجامی، انجام دینا، پورا کرنا، حاصل کرنا۔ مُناجَزَة و تناجُز: لڑائی، قتال، جدوجہد، مناقشہ، مجادلہ، مسابقہ، جدل و جدال، نزاع، جھگڑا۔ ناجِز: مکمل کیا ہوا، پورا، تمام، کل، سب سارا، کامل، مکمل، کامل، بے کم و کاست، پورا پورا، اعلیٰ درجے کا، پکا۔

نجس: نَجِسَ ـَ نَجَسًا و نَجُسَ ـُ نَجَاسَةً: گندا ہونا، ناپاک ہونا، صاف نہ ہونا۔ صفت نَجِس و نَجُس جمع انجاس نَجَّسَهُ: کو ناپاک کرنا، گندا کرنا، نجس کرنا ـــ الصبيَّ ولهُ: نظر بد سے بچاؤ کے لئے بچہ پر تعویذ وغیرہ لٹکانا۔ انْجَسَهُ: کو نجس کرنا، ناپاک کرنا، گندا کرنا۔ تَنَجَّسَ: نجس ہونا ـ الثوبُ: کپڑے کا گندا ہونا۔ الرجُل: ایسا کام کرنا جس سے نجاست سے نکل سکے۔ داءٌ ناجس و نجِس و نجيس: لاعلاج بیماری۔ النُّجُس: تعویذ کرنے والے۔ الأنجاس: نظر بد اور جن سے بچاؤ کے لئے تعویذ اور پردہ وغیرہ۔

نَجُسَ ـُ نَجَاسَةً و نَجِسَ ـَ نجاسًا: ناپاک ہونا، گندا ہونا، دھباپڑا ہونا، داغدار ہونا، بدرنگ ہونا، فاسد ہونا، خراب ہونا۔ نَجَّسَ و انْجَسَ ہ: کو گندا کرنا، پر دھبا ڈالنا، پر دھبا لگانا، داغ لگانا، آلودہ کرنا، ناپاک کرنا، نجس کرنا، کو غلیظ بنانا یا کرنا میلا کرنا، کو بدرنگ کر دینا، فاسد کرنا، خراب کرنا۔ تَنَجَّسَ: ناپاک ہونا، گندا ہونا یا ہو جانا، پر دھبا پڑنا، کو دھبا لگنا، پر داغ لگ جانا، آلودہ ہو جانا، نجس ہونا، میلا ہونا، غلیظ ہونا یا ہو جانا، بدرنگ ہو جانا، پر دھبے پڑ جانا، فاسد ہونا، خراب ہو جانا، پر دھبے پڑ جانا، فاسد ہونا، خراب ہونا یا ہو جانا، اپنے آپ کو آلودہ کرنا، ناپاک کرنا، نجس کرنا، گندہ کرنا، غلیظ کرنا۔ نَجَس و نجاسة: ناپاکی، میل، گندگی، نجاست، غلاظت، میلا، الاَنْش۔ نَجِس جمع انجَاس: ناپاک، گندہ، میلا، غلیظ، آلودہ۔ نَجِس و نَجِيس: ناقابل علاج، مہلک (بیماری)

نجش: ۱۔ نَجَشَ ـُ نَجْشًا الشيَّ: کی کھود کرید کرنا، کو نکالنا، کو بکھرنے کے بعد اکٹھا کرنا ـــ الصيدَ: شکار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے بھڑکانا ـــ النارَ: آگ جلانا، روشن کرنا ـــ الحديثَ: بات پھیلانا ـــ فی البیع: چیز کی تعریف کرکے بائع کی موافقت کرنا۔ بغیر ارادہ خریداری چیز کا بھاؤ بڑھانا یا خریدار کو ایک چیز سے ہٹا کر دوسری چیز کی طرف رغبت دلانا۔ اسم النَّجَش ـــ نَجْشًا و نَجَاشَة: جلدی چلنا۔ تَنَاجَشَ القومُ فی البیع وغیرہ: دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا۔ اِسْتَنْجَشَ الشيَّ: کو نکالنا۔ الصيدَ: شکار کو بھڑکانا۔ الناجِش: شکاری ـــ والنَّجاشِی: شکار کو شکاری کی طرف لانے والا۔ النَّجَّاش: شکاری ج نُجُل نَجُوش: شکار کو بھڑکانے والا۔ النَّجِيش: شکاری۔ المِنجاش: شکار کو شکاری کی طرف لانے والا، عیب گیر۔ المُنَجَّش: چغل خور ج نُجُل مِنجش: شکار کو بھڑکانے والا۔ قول مَنْجُوش: جھوٹی من گھڑت بات۔

۲۔ النِّجاش: تسمہ جس کو دو چمڑوں کے درمیان رکھ کر سی دیتے ہیں۔ النَّجاشِی و النِجاشی و النَجاشی و النِجاشی: ملک حبشہ کے بادشاہ کا لقب۔ حبشی زبان میں نجوشی کا معرب، جس کا معنی بادشاہ ہے۔

نجع: ۱۔ نَجَعَ ـَ نُجُوعًا الطعام فی الانسان: میں خوراک کا نفع مند ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ ھذا طعام يُنْجَعُ عنه و به: یہ صحت بخش اور فائدہ مند کھانا ہے۔ ـ فيه الدواءُ او الطعام او الكلام: میں دواء، کھانا یا کلام کا داخل ہو کر اثر انداز ہونا ـ البلدَ: شہر میں آنا۔ القومُ الكلأَ: لوگوں کا چراگاہ تلاش کرنے نکلنا۔ الابلَ النجُوعَ بالنَّجُوعَ: اونٹوں کو آٹا ملا پانی پلانا۔ نُجِعَ الصبيُّ لبنَ الشاةِ او بلبن الشاة: بچہ کو بکری کے دودھ کی خوراک دیا جانا اور دودھ سے بچہ کا پرورش کیا جانا۔ نَجَّعَ الطعامَ فی الانسان: کھانے کا مفید اور صحت بخش ہونا ـــ فيه الدواء او الطعام او الكلام: میں دواء، کھانے یا کلام کا داخل ہو کر اثر انداز ہونا۔ انْجَعَ الطعامُ وغيرُهُ: کھانے وغیرہ کا نفع مند ہونا، مفید ہونا۔ الرجُلُ: فلاح پانا ـ الراعي الفصيلَ: چرواہے کا اونٹ کے بچہ کو دودھ پلانا۔ تَنَجَّعَ وانْتَجَعَ فلانًا: بخشش کی طلب میں کسی کے پاس آنا ـــ واسْتَنْجَعَ القومُ الكلأَ: قوم کا چراگاہ کی تلاش میں جانا۔ اُسْتُنْجِعَ به رعنه: سے خوش ہونا اور موٹا ہونا۔ الناجِع جمع ناجِعَة و نَوَاجِع: چراگاہ کا متلاشی۔ ماءٌ ناجِع: خوشگوار پانی۔ النُّجْعَة جمع نُجَع: چراگاہ کی تلاش، یہ نجوع کا اسم ہے۔ کہا جاتا ہے۔ خرجوا للنجعة: وہ چراگاہ کی تلاش میں نکلے۔ فلانٌ نُجْعَتِی: فلاں میری امید ہے۔ النَّجُوع: آٹا ملا پانی جو اونٹوں کو پلایا جاتا ہے۔ نَجُوعُ الصبي: دودھ۔ ماءٌ نجوع: خوشگوار پانی۔ النَّجِيع: مفید ـ من الطعام او الشراب: جسم کے لئے مفید خوراک یا مشروب (یا شراب)۔ ماءٌ نجيع: خوش گوار پانی۔ المَنْجَع و المُنْتَجَع والمُسْتَنْجَع: چراگاہ۔

۲۔ تَنَجَّعَ بالدم: خون سے لتھڑنا۔ النَّجِيع من الدم: سیاہی مائل خون۔

۳۔ النُّجُع جمع جُوع: بالوں کا بنا ہوا خیمہ۔ النُّجاع: شجاع کے تابع۔ کہا جاتا ہے۔ شجاع نجاع: بہت دلیر، بہادر۔

نَجَعَ ـَ نَجْعًا و نُجُوعًا: مفید ہونا، سودمند ہونا، منفعت بخش ہونا، کارآمد ہونا، فائدہ بخش ہونا، صحت بخش اثر کا حامل ہونا۔ نَجَّعَ وانْجَعَ: مندرجہ بالا معانی۔

إنْتَجَعَ ہ: کے پاس پناہ لینا، سے رجوع کرنا ـــ ہ: آرام وغیرہ کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، مانگنا، چاہنا۔ اِسْتَنْجَعَ ـ ہ: (چراگاہ، آرام تفریح) ڈھونڈنا چاہنا تلاش کرنا۔ نَجْع جمع نُجُوع: کھیڑا، چھوٹا گاؤں۔ ناجِع: مفید کارآمد، سود مند، صحت بخش، فائدہ بخش، خوشگوار، فرحت افزا۔ نُجْعَة: خوراک کی تلاش۔ نَجِيع: مفید، کارآمد، سودمند، صحت بخش، خوش گوار، فرحت افزا، فائدہ مند، خون۔ مُنْتَجَع: جائے پناہ، کنج عزلت، گوشہ نشینی، تفریحی مرکز، صحت گاہ، آرام کا مرکز، ردء۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

صحت لوگوں کا گھر، دارالصحت، دارالشفاء۔

نجف: ا۔ نَجَفَ ۔ نُجفًا النجیفَ: چوڑے پھل والا تیر تراشنا۔ صفت نَجیف و مَنجُوف نَجَفَ ت الریحُ الکَثِیبَ او الرملَ: ہوا کا ریت کا ٹیلہ یا ریت اڑانا۔ النَجَف جمع نِجَاف و النَجَفَة: ٹیلہ۔ وادی کا وہ حصہ جہاں پانی نہ چڑھے۔ النِجَاف: دروازہ کا چھجہ، سردل۔ نِجَاف الغار: غار پر آگے کو ابھری ہوئی چٹان۔ النَجیف جمع نُجُف: چوڑے پھل کا تیر۔ المَنجُوف (مفع): چوڑے پھل کا تیر۔ برتن قبر وغیرہ جن کے اندر کے پہلو وسیع ہوں۔

۲۔ نَجَفَ ۔ نُجفًا الشجرةَ: درخت کو جڑ سے کاٹنا ۔۔۔ الشاةَ: بکری کا سارا دودھ دوہ لینا۔ نَجَفَ لفلان نجفةً من اللبن: کے لئے تھوڑا سا دودھ الگ کرنا۔ کو تھوڑا سا دودھ دینا۔ اِنتَجَفَ و استَنجَفَ الشیءَ: کو نکالنا ۔۔۔ الشاةَ: بکری کا سارا دودھ دوہ لینا ۔۔۔ ت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو پانی سے خالی کر دینا، بادل برسانا۔ النُجفة: تھوڑی چیز۔ المِنجَف: ٹوکرا۔

۳۔ المَنجُوف: بزدل۔

○ نَجَفٌ جمع نِجَاف: (ریت کا) ٹیلہ، بند، پشتہ، سیلاب روک یا سیلابی پشتہ۔ النَجَف: وسطی عراق کے ایک شہر کا نام۔ نَجَفة جمع نَجَفات: شیشے کا جھاڑ۔

نجل: ا۔ نَجَلَ ۔ نُجُولاً ابوہ و نَجَلَ بہ: کا باپ بننا، والد بننا ۔۔۔ فلانًا: کو پاؤں کے پنجے سے مار کر لڑھکا دینا ۔۔۔ الناسُ: لوگوں سے سختی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے۔ مَن نَجَل الناسَ نَجَلوہ: جو لوگوں کو رسوا کرتا ہے وہ اسے رسوا کرتے ہیں اور جو انہیں گالی دیتا ہے وہ انہیں گالی دیتے ہیں ۔۔۔ نَجلاً الشیءَ وبالشیءِ: کو پھینکنا۔ تناجَلَ القومُ: نسل پیدا کرنا۔ اِنتَجَلَ فلانٌ النزَّ: سیم نکالنا، رس کر آنے والا پانی نکالنا۔ استَنجَلَ المکانُ: جگہ میں رسنے والے پانی کی کثرت ہو جانا۔ الناجل (فا) م ناجِلة جمع ناجلات ونواجِل: شریف النسل انسان یا حیوان۔ النَجْل (مص) جمع انجَال: بیٹا، نسل (کہا جاتا ہے ھو کریم النجل وہ شریف النسل اور شریف الطبع ہے)۔ والد ۔۔۔ جمع نِجَال و انجَال: جاری یا رسنے والا پانی۔ دلدل۔ المِنجَل: بہت اولاد والا ۔۔۔ جمع مَناجِل: درانتی۔

۲۔ نَجَلَ ۔ نَجلاً الشیءَ: کو ظاہر کرنا ۔۔۔ الارضَ: کھیتی کے لئے زمین پھاڑنا ۔۔۔ الجلدَ عن المذبوح: ذبح کئے جانے والے جانور کے ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ کے گوشت سے کھال اتارنا۔ مَنجُول: اس طرح اتاری ہوئی کھال ۔۔۔ نَجَلَہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ نَجِلَ ۔ نَجَلاً الرجلُ: بڑی اور خوبصورت آنکھوں والا ہونا۔ صفت اَنجَل جمع نُجل و نِجَال۔ بڑی اور خوبصورت آنکھ کو نَجلاء جمع نُجل کہتے ہیں۔ تناجَلَ القومُ: آپس میں جھگڑنا۔ اِنتَجَلَ الامرُ: ظاہر ہونا، گزرنا۔ النَجْل جمع نِجَال و انجال: سڑک۔ راستہ۔ الأنجَل جمع نُجل و نِجال م نَجلاء جمع نُجل: کشادہ، لمبا، چوڑا۔ کہا جاتا ہے۔ طعنہ طعنةً نجلاءَ: اس نے اس چھرے کا بڑا گھاؤ لگایا۔ سنانٌ مِنجَل: چوڑا زخم لگانے والا نیزہ۔

۳۔ نَجَلَ ۔ نُجلاتِ الارضُ: زمین کا سرسبز ہونا۔ اَنجَلَ الدابةَ: جانور کو سبز چارہ میں چھوڑنا۔ النواجل: نجیل نامی پودے چرنے والے اونٹ۔ النَجیل جمع نُجُل (ن): ایک قسم کے پودے جس کی جڑیں بہت نکلتی ہیں جس کے بعد ان کا اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور مزروع چیزوں کے لئے خطرہ بن جاتی ہیں۔ ان پودوں کے ٹوٹے ہوئے پتے۔ النجیلیات (ن): گندم اور جو کی طرح اہم دانے دار پودوں پر مشتمل سیدھی ڈنڈیوں والے پودے۔ المِنجَل: گھنی کھیتی۔

۴۔ نَجَلَ ۔ نَجلاً الرجلُ: تیز چلنا۔ المِنجَل: ماہر ساربان۔

۵۔ نَجَلَ ۔ نَجلاً الصبیُّ اللوحَ: بچہ کا تختی مٹانا۔

۶۔ النَجْل جمع نِجَال و انجال: عمل۔ بڑی جماعت۔

○ نَجَلَ ۔ نُجلاہ: کا باپ بننا۔ نَجل جمع انجال: نسل، اولاد، بچہ یا بچے، خلف، چشم و چراغ، نونہال، بیٹا، آل۔ نجیل جمع نَجَل: باغیچہ (باڑی) کی گھاس کی ایک قسم، رس دار پودے۔ اَنجَل م نجلاءُ: بڑی آنکھوں والا۔ بڑی چوڑی آنکھ۔ شگاف دار (زخم) طعنة نجلاء: شگاف دار زخم پیدا کرنے والی چوٹ، شدید ضرب یا چوٹ۔ مِنجَل جمع مَناجِل: درانتی۔ مَنجَلة: پروانہ راہداری۔

نجم: ا۔ نَجَمَ ۔ نُجُومًا الشیءُ: ظاہر ہونا، نکلنا۔ کہا جاتا ہے۔ نجمت الکواکبُ: ستارے نکل آئے۔ نجمَ النبتُ والسنُّ والقرنُ: پودے، دانت اور سینگ نکل آئے۔ نجم فی بنی فلان شاعرٌ او فارسٌ: فلاں قبیلہ میں ایک شاعر یا شہسوار نمایاں ہوا ۔۔۔ کذا عن کذا: فلاں شئی سے ایک نتیجہ ظاہر ہوا ۔۔۔ السهمُ او الرمحُ: تیر یا نیزہ کا پار ہو جانا ۔۔۔ فلانٌ الدینَ: قرض مقررہ اوقات میں ادا کرنا یا قسطوں میں ادا کرنا۔ نَجَّمَ: احوالِ عالم معلوم کرنے کے لئے ستاروں کو دیکھنا ۔۔۔ الدینَ: قرض قسطوں میں ادا کرنا ۔۔۔ علیہ الدیةَ: پر دیت کی قسط مقرر کرنا۔ اَنجَمَ الشیءُ: ظاہر ہونا، نکلنا ۔۔۔ ت السماءُ: آسمان پر ستاروں کا ظاہر ہونا۔ تَنَجَّمَ: احوالِ عالم معلوم کرنے کے لئے ستاروں کو دیکھنا۔ النَجْم: تنے کے بغیر نباتات، بیل۔ اصل کہا جاتا ہے ھذا الحدیث لا نجمَ لہ: اس بات کی کوئی اصل نہیں۔ جمع نُجُوم و اَنجُم و اَنجام و نُجُم (فلک): ستارہ۔ ثریا۔ مقررہ وقت پر ادا کیا جانے والا قرض۔ (کہا جاتا ہے: جعلت مالی علیہ نُجُومًا مُنَجَّمَة یُؤدِّی کل نجم منها فی وقت کذا: میں نے اپنا مال اس پر قرض مقرر کیا جس کی ہر قسط فلاں وقت میں ادا کی جائے گی۔) وقت جس میں قرض کی ادائیگی کی جائے۔ نجمُ البحر (ح): ایک سمندری جانور جس کے جسم میں پانچ یا زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ بہت تیز چلتا ہے اور بعض سمندری جانور مار ڈالتا ہے۔ جیسے سمندری کیڑے اور کستورہ مچھلیاں۔ نجوم السینما: فلمی ستارے۔ النَجمة: ستارہ۔ کلمہ (ن): پودوں کی ایک قسم۔ ذو النَجمة: گدھا۔ النجمتان المزدوجتان (فلک): دو ستارے جو اپنے مشترکہ مرکز ثقل کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ النَجَمة (ن): ایک قسم کا پودا (ن) زمین پر پھیلنے والی بیل۔ کہا جاتا ہے کہ الثَیِّل و النجمة والعکرش: ایک ہی چیز ہے۔ النَجَّام و المُتَنَجِّم: نجومی۔ النجیم من النبات: تازہ نکلا ہوا پودا۔ المَنجَم: کان (نکلنے کی جگہ)، معدن، واضح راستہ۔ المِنجَم: ترازو میں لوہے کی ڈنڈی۔ المُنَجِّم: نجومی۔ اس علم کا نام علم التنجیم ہے۔

۲۔ اَنجَمَ الشتاءُ او البردُ: جاڑے یا سردی کا ختم ہونا ۔۔۔ الرجلُ عن الامرِ: کام کو ترک کر دینا۔ چھوڑ دینا ۔۔۔ ت الحروبُ: جنگ کا ختم ہونا۔ اِنتَجَمَ البردُ او الشتاءُ: جاڑے یا سردی کا ختم ہو جانا۔

○ نَجَمَ ۔ نُجُومًا: ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ (ستارے کا) نکلنا۔ شروع ہونا ۔۔۔ من/عن: سے نتیجہ نکلنا، سے نکلنا، سے مشتق ہونا۔ سے حاصل کرنا۔ نَجَمَ قرنُہٗ: دکھائی دینے لگنا۔ نَجَّمَ: ستاروں کا مشاہدہ کرنا، ستاروں سے مستقبل کی پیش گوئی کرنا، جوتشی یا نجومی ہونا یا قسطوں میں ادا کرنا۔ تَنَجَّمَ: ستاروں کا مشاہدہ کرنا، ستاروں سے مستقبل کی پیش گوئی کرنا۔ نَجم جمع نُجُوم: قسط، جزوی ادائیگی۔ نُجُومًا: قسطوں میں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ نَجم جمع نُجُوم و اَنجُم: ستارہ، جرم فلکی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(جمع اجرام فلکی۔ مبارک ستارہ، (ستاروں کا
جھرمٹ، پچھتر۔ جڑی بوٹیاں، گھاس پات، رس دار
پودے، گھاس۔نجم ذو ذَنَب: دم دار تارا۔النجوم
السینما: فلمی ستارے۔مَنجمۃ جمع مَنجمات: ستارہ،
ستارہ کا نشان یا علامت۔منجمۃ سینمائیۃ: فلمی
ستارہ (عورت)۔مرض النجمۃ: گھوڑوں کی بیماری۔
نجمی: ستارہ کی شکل کا۔ستاروں جیسا۔ستارے کی
مانند، ستاروں کا، ستاروں کے متعلق، قسطوں میں، قسط
وار۔نُجَیمۃ: چھوٹا ستارہ۔مَنجام و مُنجم جمع
مُنجّمون: جوتشی، نجومی۔مَنجَم جمع مَناجم: منبع،
جڑ، سرچشمہ، ذریعہ، اصل، کان، گڑھا۔تنجیم:
جوتش، نجوم، ستارہ شناسی۔

نجہ: نَجَہَ۔نَجْہًا الرجُلَ: کو بری طرح ہٹانا، سے
بری طرح پیش آنا۔۔۔ علی القوم: قوم پر ظاہر ہونا،
نکل کر قوم کے سامنے آنا۔۔۔ البلدَ: شہر میں داخل ہونا
اور اسے ناپسند کرنا۔انتجہ و تنجّہ الرجُلَ: کو بری
طرح ہٹانا، سے بری طرح پیش آنا۔

نجو: انجا ینجو نَجاۃً و نَجاءً و نَجْوًا و نَجایۃ
کذا: سے نجات پانا، خلاصی پانا۔۔۔ نَجاءً: جلدی کر
کے آگے بڑھ جانا۔۔۔ نجوًا فلانًا: کو رہائی دینا،
خلاصی دینا۔۔۔ الدواءَ: دوا پینا۔الشجرۃَ: درخت
کاٹنا۔۔۔ الصبیُّ: بچہ کا پاخانہ کرنا۔۔۔ النجو من
البطن: پیٹ سے پاخانہ نکلنا۔۔۔ نجوًا و نجًا
الجلدَ من الذبیحۃ: ذبح کئے ہوئے جانور کی کھال
اتارنا۔نجّی تنجیۃً الرجُلَ من کذا: کو سے رہائی
دلانا، کی خلاصی کرانا۔۔۔ الرجُلَ: کو بلند زمین میں
چھوڑنا۔انجی الرجُلَ: کو رہا کرانا، کو رہائی دلانا، کہا
جاتا ہے شرب دواءً فما انجاہُ: اس نے دوا پی تو
دوا نے اسے ٹھیک نہیں کیا۔۔۔ فلانًا غصنًا: کے لئے
ٹہنی کاٹنا۔۔۔ الجلدَ: کھال اتارنا۔۔۔ ت النخلۃُ:
کھجور کے درخت کا پکی کھجوروں والا ہونا۔الرجُلُ:
پسینہ نکالنا۔پادنا۔تنجّی: بلند زمین ڈھونڈنا۔
استنجی من کذا: سے خلاصی پانا۔۔۔ الشیءَ من
فلان: سے چیز چھڑوانا۔۔۔ الرجُلُ: تیز چلنا، شکست
کھانا۔۔۔ الشجرۃَ: درخت کو جڑ سے کاٹنا۔۔۔
الثمر: پھل چننا۔۔۔ القومُ: تر کھجوریں حاصل کرنا یا
کھانا۔۔۔ الرجُلُ: غسل کرنا، یا پاخانہ کے بعد صفائی
کرنا۔الناجی م ناجیۃ جمع نُجاۃ و ناجیات فا
ل۔ جیۃ: تیز رفتار اونٹنی کہا جاتا ہے قطع المکان
بنواجٍ سریعۃ الاعمال: اس نے جگہ تیز رفتار اونٹنوں
کے ذریعے طے کی۔النجا: لاٹھی، لکڑی، ہودے کی
لکڑیاں۔کھال۔و النجاء: خلاصی۔رہائی۔کہا جاتا
ہے النجاءَ کَ النجاءَ کَ و النجاکَ النجاکَ:
جلدی کر، جلدی کر۔النجاۃ (مص) ج نَجًا: خلاص،
رہائی، بلند زمین، ٹہنی۔النجو (مص) جمع نِجاء:
پیٹ سے نکلنے والی ہوا یا پاخانہ۔بادل جو بارش برسا
چکا ہو۔النجاوۃ: زمین کی وسعت۔النجوۃ جمع
نِجاء: اسم مرہ۔بلند زمین۔کہا جاتا ہے انہ من الامر
بنجوۃٍ: وہ اس امر سے پاک و بری ہے۔النجوی
جمع نجاوی: خراج، محصول۔النجی جمع نجیۃ: تیز
رفتار۔(بعیرٌ نجیٌّ: تیز رفتار اونٹ) حدی پڑھنے
والے کی آواز، چلا کر ہانکنے والا۔المنجاۃ جمع مَناجٍ:
نجات کا باعث۔کہا جاتا ہے الصدق منجاۃٌ: سچائی
نجات کا باعث ہے۔المَنجی جمع مَناجٍ: نجات کی
جگہ۔بلند زمین۔

۲۔نجا ینجو نجوًا و نجوی و ناجی مناجاۃً و
نجاءً الرجُلَ: سے سرگوشی کرنا۔اسم النجوی
تناجی تناجیًا القومُ: باہم سرگوشی کرنا۔انتجی
القومُ: باہم سرگوشی کرنا۔۔۔ الرجُلَ: کو سرگوشی کے
لئے خاص کرنا، کو اپنا راز دار بنانا۔النجو جمع نجاء: دو
شخصوں کے درمیان راز کی بات۔النجاۃ جمع نجا:
حسد، حرص، سانپ کی چھتری۔النجوی جمع نجاوی:
مناجات کا اسم۔بھید، راز، ہم راز، یہ مصدر کے ذریعہ
وصف ہے جس میں مفرد و جمع یکساں ہیں۔کہا جاتا
ہے ہم نجوی: وہ ہم راز ہیں۔النجیّ جمع
انجیۃ: راز، بھید، جس سے رازداری کی بات کی
جائے، بات کرنے والا کہا جاتا ہے باتت فی صدرہ
نجیّۃٌ قد اسھرتہُ: اس کے سینہ میں غم رات بھر رہا
اور اسے سونے نہیں دیا۔

۳۔نجا۔نجوًا و نجاءً و نجاۃً من: سے اپنے آپ کو
بچانا، بچنا، رہائی پانا، آزاد ہونا، نجات پانا حفاظت کی
طرف جانا، دور ہونا، سے گریز کرنا، نکل جانا، بھاگ
جانا، بچ نکلنا، چھٹکارا پانا۔نجا بنفسہ یا نجا بروحہ
من: سے اپنے آپ کو بچایا۔نجا بحیاتہ: اپنی زندگی
بچانا، جان بچانا۔۔۔ نجوًا و نجوی ہ: کو راز یا
بھید دینا، کے سپرد کرنا۔نجّی و انجی ہ من: کو سے
رہائی دلانا، بچانا، محفوظ کرنا، نجات دلانا۔ناجاہُ ب
سے کی سرگوشی کرنا، کو کوئی راز کی بات سپرد کرنا۔۔۔ ہ: کو
اعتماد میں لینا، کو راز دار بنانا۔ناجی نفسہ: خود کلامی
کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا، اپنے آپ سے کہنا۔
تناجی: ایک دوسرے سے سرگوشی کرنا۔سرگوشی میں
گفتگو کرنا۔بھیدوں کا تبادلہ کرنا، خیالات کا تبادلہ کرنا،
راز دارانہ بات چیت کرنا، بے تکلفی سے بات چیت
کرنا۔انتجی ہ: ایک دوسرے کے کان میں کی
سرگوشی کرنا۔استنجی من: سے اپنے آپ کو بچانا،
سے فرار ہونا، سے رہائی پانا، نجات پانا۔فی نجوۃ
من: سے آزاد، سے دور، سے بہت دور۔منجوی جمع
نجاوی: راز دارانہ بات چیت، خفیہ گفتگو۔نجیّ جمع
انجیۃ: خفیہ، مخفی، پوشیدہ، ہم راز، راز دار، محبت، ہمدم،
معتمد علیہ، دلی دوست، یار غار۔منجیً من: سے
بچاؤ، سلامتی، نجات، رہائی۔منجاۃ جمع مَناجٍ: محفوظ
جگہ، جائے پناہ، حفاظت گاہ، حفاظت، چھٹکارا،
رہائی، نجات۔کان بمنجاۃٍ من: سے محفوظ ہونا،
مُناجاۃ: پوشیدہ گفتگو، راز دارانہ بات چیت۔مناجاۃ
الأرواح: ارواحیت، (Spiritism) یا روحانیت
(Spiritualism)۔مُنجٍ: بچانے والا، چھڑانے
والا، نجات دینے والا، نجات دہندہ۔منجّی منجی۔

نح: انحّ۔نحیحًا الرجُلُ: سینہ سے آواز نکالنا۔۔۔
نحًّا الجملَ: اونٹ کو تیز چلنے پر اکسانا۔النحاحۃ:
سخاوت، بخل۔النحیح (مص) بخیل، کہا جاتا ہے
فلانٌ شحیحٌ نحیحٌ: فلاں بخیل ہے۔
۲۔نحنح فلانًا: کو بری طرح ہٹانا۔۔۔ و تنحنح
الرجُلُ: سینہ سے آواز نکالنا، کہا جاتا ہے ما انا
بنحنح النفس عن کذا: میرا دل اس سے خوش
نہیں۔النحانحۃ: بخیل، کمینے۔

نحب: انحب۔نحبًا الرجُلُ: نذر ماننا یعنی آپ پر
کوئی کام فرض کرنا۔۔۔ القومُ فی سیرہم: جلدی
چلنا۔۔۔ نحبًا بکذا: پر شرط باندھنا۔نحّب
الرجُلُ: نذر ماننا۔القومُ: جلدی چلنا۔۔۔ علی
الشیء: میں مشغول ہونا۔ناحب مناحبۃً ہ علی
کذا: سے پر شرط باندھنا۔۔۔ ہ: سے فخر میں مقابلہ
کرنا۔۔۔ ہ الی فلان: کوئی طرف فیصلہ کیلئے لیجانا۔
تناحب القومُ: لڑائی وغیرہ کیلئے وقت مقرر کرنا۔
النحب: تیز یا آہستہ چال۔(کہا جاتا ہے سار فلانٌ
علی نحب: فلاں تیز چلا) بڑا خطرہ، جوا، تختی، ہمت،
موت، نفس، وقت، مدت، نذر (کہا جاتا ہے قضی
فلان نحبہٗ: وہ مر گیا) النُحبۃ: قرعہ۔المنحّب فا
سیر منحّب: تیز چال۔

۲۔نحب۔نحبًا و نحیبًا الرجُلُ: اونچی آواز سے رونا۔
۔۔۔ نحبًا و نُحابًا البعیرُ: اونٹ کو کھانسی لگنا۔
انتحب: بہت رونا۔لمبے لمبے سانس لینا۔النحب
(مص): شدید گریہ، کھانسی۔
۳۔النحب: لمبائی، نیند، موٹاپا، بڑے جسم کا اونٹ، دلیل،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

حاجت۔

ن نَحَبَ ـِ نَحْبًا و نَحِیبًا و انتحب: رونا، سسکیاں بھرنا، سسکیاں لینا، چیخنا، کراہنا۔ نَحْب رونا، سسکیاں بھرنا، سسکیاں لینا، آہیں بھرنا، کراہنا، ماتم، ندبہ، وقت، مدت، میعاد، عرصہ، وقفہ، موت۔ قضی نَحْبَهٗ: اس نے اپنی قسم پوری کی، اس نے اپنا قول، عہد و پیمان پورا کیا۔ وہ گزر گیا، مر گیا۔ نحیب اونچی آواز سے رونا، کراہ، ماتم۔

نحت ۱۔ نَحَتَ ـِ و نَحِتَ ـَ نَحْتًا العودَ: لکڑی چھیلنا، ہموار کرنا، ـــ الحجرَ: سنگ تراشنا، پتھر تراشنا ـــ الخشبۃَ: لکڑی کے تختہ کو ہموار کرنا، رندہ کر کے سطح ہموار کرنا ـــ السفرُ البعیرَ: سفر کا اونٹ کو لاغر کرنا۔ ـــ الجبالَ پہاڑ کھودنا (کہا جاتا ہے: نُحِتَ فلانٌ علی الکرم فلاں شخص فیاض پیدا کیا گیا ہے۔) ـــ الکلمۃَ: دو یا زائد کلموں سے مرکب کرنا جیسے صَهْصَلَقَ: صَهَل وصَلَق سے، البَسْمَلَۃ: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے الحوقلۃ لاحول ولاقوۃ الا باللہ سے فذلکۃ فذلك کذا و کذا سے إنتحتَ من الخشبۃ مایجعلہ فی النار: اس نے لکڑی سے اتنا حصہ کاٹ لیا جسے وہ آگ میں ڈالے ـــ ت الخشبۃُ: لکڑی کا تختہ یا ٹکڑا کٹنا۔ النَّحْت و النَّحات: طبیعت۔ النُّحاتۃ: لکڑی کا چھیلن، تراشہ، کاٹنے سے گرے ہوئے ریزے۔ النحّات: سنگ تراش، بہت چیرنے تراشنے والا۔ النَّحِیت (مص) تراشا ہوا۔ لاغر اونٹ ـــ من الحوافر: گرا ہوا سم۔ النَّحِیتۃ: طبیعت کہا جاتا ہے۔ ھو کریم النحیتۃ: وہ فیاض طبیعت ہے۔ المَنْحَت جمع مَنَاحِت و المنحات جمع مناحیت: کندہ کرنے کا اوزار، لکڑی تراشنے کا آلہ، بسولہ، کلہاڑی، کہا جاتا ہے: ھو من مَنْحَتِ صدقٍ: وہ سچائی کی اصل سے ہے۔ ھم کرام المنابت و المناحت وہ پیدائشی فیاض ہیں۔

۲۔ نَحَتَ ـِ و نَحِتَ ـَ نَحْتًا ہٗ کو پچھاڑنا۔ ـ ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ـــ ہٗ بلسانہ کی غیبت کرنا، کو ملامت کرنا، گالی دینا۔ ـــ عرضہٗ پر طعن کرنا، کی بے آبروئی کرنا۔ ـــ اَثْلَتَہٗ و فی اَثْلَتِہٖ پر نکتہ چینی کرنا، کے حسب و نسب کو برائی کے ساتھ یاد کرنا۔

۳۔ نَحَتَ ـِ نَحِیتًا: کراہنا، ہائے ہائے کرنا۔ النحیت: گریہ و زاری، کراہ، آہ آہ۔ آہ و بکا، آہ و زاری۔ النَحیتۃ: آہ و بکا، آہ زاری۔

۴۔ نَحِیت: ردی چیز، قوم میں اجنبی۔

ن نحت ـ نحتا (پتھر یا لکڑی) کاٹنا، کو ہموار کرنا، سجانا، کاٹنا، کو نہانی سے چھیلنا، ـ سے مجسمے بنانا، پر نقاشی کرنا، ـ سے بت بنانا، کو بنانا، کے سکے ڈھالنا۔ نحت: سنگتراشی، مجسمہ سازی، پتھر کی تعمیر، بڑھئی کا کام۔ نَحّات: پتھر کا کام کرنے والا، پتھر کاٹنے والے۔ سنگتراش نُحاتۃ چھیلن، تراشہ، ریزہ، ٹکڑا، قاش، چھپٹی، کرچ، لکڑی کا ٹکڑا، چپٹی۔ مِنْحَت جمع مَناحِت: چھینی۔

نحر ۱۔ نَحَرَ ـَ نَحْرًا و تَنْحارًا البهیمۃَ: جانور کے گلے میں چوٹ لگانا۔ ذبح کرنا، کہا جاتا ہے: نحر الامورَ علمًا: اس نے معاملات یا امور کو اچھی طرح جان لیا۔ ـــ فلانًا: کے مقابل ہونا، کہا جاتا ہے۔ نحر بیتی بیتَہٗ میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے۔ ـــ الصلاۃَ: نماز کو اس کے پہلے وقت ادا کرنا۔ ـــ المصلّی فی الصلوٰۃ: نماز میں سینہ نکال کر کھڑا ہونا۔ ناحرَ مُناحرۃً ہٗ: سے جھگڑا کرنا، کو گلے میں زخم لگانا۔ تناحرَ القومُ علی کذا: پر جھگڑنا اور بعض کا بعض کے مقابل آنے کے قریب ہونا۔ ـــ القومُ علی الطریق وغیرہ: راستہ وغیرہ پر پے در پے آنا۔ ـــ القومُ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔ ـــ ت الداران: دو گھروں کا ایک دوسرے کے سامنے ہونا۔ إنتحرَ الرجلُ: خودکشی کرنا۔ ـــ السحابُ: بادل کا بہت پانی لیکر اٹھنا۔ ـــ القومُ علی الامر: پر لڑنا جھگڑنا۔ ـــ ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ الناحر فا: ذبح کرنے والا۔ الناحِران (ع ا): دو شہ رگیں۔ الناحرۃ جمع نواحِر و ناحِرات: ناحر کا مونث۔ مہینہ کا پہلا دن یا مہینہ کا آخری دن یا آخری رات۔ الناحرتان: دو شاہ رگیں۔ النحر (مص) جمع نُحور: سینہ کا اوپر کا حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ قعد فی نحر فلانٍ وہ فلاں کے مقابل بیٹھا۔ نحر النهار: دن کا ابتدائی حصہ۔ کہا جاتا ہے: اتیتُہ فی نحر الظهیرۃ: میں اس کے پاس اس وقت آیا جب سورج اپنی بلندی کی انتہاء پر تھا۔ یوم النحر ذی الحجۃ کا دسواں دن۔ النِّحر ماہر، ہنرمند، دانا و بینا۔ النَّحُور: ذبح کرنے والا، قاتل، خنجر والا۔

النَّحِیر جمع نَحْری و نُحَراء و نَحائر: ذبح کیا ہوا (اونٹ)۔ النحیرۃ جمع نحائر نحیر کا مونث۔ مہینہ کا پہلا دن، مہینہ کی آخری رات۔ النِّحْرِیر جمع نَحارِیر ماہر، سمجھدار، عقل مند، بڑا عالم۔ المَنْحَر گلے میں زخم لگانے کی جگہ، ذبح کرنے کی جگہ۔ المِنْحار فیاض، بہت ذبح کرنے والا، مہمان نواز کہا [illegible] مہمان نواز۔ بَوائِك موٹے اونٹ۔ المَنْحُور جمع مَناحِیر: سینہ کا اوپر کا حصہ۔ المُنتحَر: کشادہ راستہ۔

۲۔ النَّحِیر جمع نَحائر: طبیعت۔

ن نَحَرَ ـَ نَحْرًا ہٗ: جانور کا گلا کاٹنا، جانور کو ذبح کرنا، جانور کو چھری پھیرنا۔ تناحرَ: لڑنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، باہمی ہلاکت آمیز لڑائی میں برسرپیکار ہونا۔ إنتحرَ: خودکشی کرنا (جہاز کا) پیندے میں سوراخ کی وجہ سے ڈوبا جانا یا ڈوب جانا۔ إنتحر شنقًا: اپنے آپ کو پھانسی دینا، سولی دینا، سولی کے ذریعہ خودکشی کرنا۔ نَحْر: قتل کرنا، ذبح کرنا، گلا کاٹنا۔ یوم النحر قربانی کا دن (ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو) نَحْر جمع نُحُور سینہ یا گلے کا بالائی حصہ، نِحْر و نِحْرِیر جمع نَحارِیر ماہر، ہنرمند، فاضل، ذی علم، قابل، لائق، منجھا ہوا، مشاق، تجربہ کار (فن میں) نَحِیر و مَنْحُور: قتل کیا ہوا، ذبح کیا ہوا، گلا کاٹا ہوا، مَنْحَر گلا، حلق، گردن، إنتحار: خودکشی، جہاز کی پیندے میں سوراخ کی وجہ سے غرقابی۔ مُنتحِر خودکشی کرنے والا۔

نحز ۱۔ نَحَزَ ـَ نَحْزًا ہٗ کو دفع کرنا، جانور کو چھیڑتے جانا کو ہاون میں کوٹنا۔ ـــ ہٗ برجلہٖ کو ٹھوکر لگانا، لات مارنا۔ ـــ فی صدرہٖ کو سینہ میں مکہ مارنا۔ نَحَزَ ـَ نَحْزًا الرجلُ: کھانسنا۔ ـــ نَحَزًا البعیرُ: اونٹ کا پھیپھڑے کی بیماری والا ہونا۔ صفت نَحِز و ناحِز و نَحِیز و مَنْحُوز۔ نُحِزَ و نَحِزَ ـَ نَحَزًا و نَحَزَ البعیرُ: اونٹ کا پھیپھڑے کی بیماری والا ہونا صفت نَحِز و ناحِز و نَحِیز و مَنْحُوز۔ أنحزَ القومُ: پھیپھڑے کی بیماری میں مبتلا اونٹوں والے ہونا۔ النُّحاز: اونٹوں کی پھیپھڑے کی بیماری، جس کی وجہ سے ان کو سخت کھانسی لگ جاتی ہے۔ المِنحاز: ہاون۔

۲۔ النُّحاز و النِّحاز اصل، کہا جاتا ہے۔ ھو کریمُ النُّحاز وہ اچھی نسل کا ہے۔ النَّحِیزۃ کی جمع نحائز: طبیعت (کہا جاتا ہے: ھو کریم النحیزۃ: (وہ خوش طبع ہے) سخت ناہموار راستہ۔

ن نَحِیزۃ طبیعت، مزاج، افتاد طبع۔ طَیِّبُ النحیزۃ: خوش طبع، کریمُ النحیزۃ شریف النفس، عالی ظرف، عالی منش، فیاض طبع۔

نحس ۱۔ نَحَسَ ـَ نَحْسًا ہٗ پر ظلم کرنا۔ نَحِسَ ـَ نَحَسًا و نَحُسَ ـُ نَحاسۃً و نُحوسۃً طالعُ الانسان: منحوس ہونا، نامبارک ہونا، بدقسمت ہونا صفت نَحْسٌ و نَحِسٌ و مَنحوسٌ کہا جاتا ہے: یومُ نَحْسٍ و نَحِسٌ و ناحسٌ و نَحِیسٌ و ایام

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نَوَاحِس و نَحُسَاتٌ و نَحِسَات: منحوس دن، منحوس ایام۔ نَحَسَ الشئ: تانبے جیسا ہونا۔ ___ فلانٌ الشئَ: پر تانبے کی تہہ چڑھانا، کی قلعی کرنا، کا ملمع کرنا۔ اَنْحَسَتِ النارُ: آگ کا زیادہ دھواں اٹھانا۔ تَنَاحَسَ و اِنْتَحَسَ فلانٌ: اوندھا گرنا۔ عام نَاحِس جمع نَوَاحِس: قحط کا سال۔ النَّحْس (مصدر): مشقت۔ مضرت۔ ناقابل حل معاملہ۔ غبار۔ ٹھنڈی ہوا، پچھوائی ہوا۔ ___ جمع نُحُوس و اَنْحُس: منحوس کہا جاتا ہے: یومٌ نَحْسٌ و ایام نُحْسٌ: منحوس دن اور ایام۔

النَّحْسَان: زحل و مریخ (ستارے) السَّعدان: مشتری و زہرہ (ستارے) النُّحس: قمری مہینہ کی آخری تین راتیں۔ النحاس (بتلیث النون): تانبا، چنگاریاں جو لوہے کو کوٹتے وقت اڑتی ہیں۔ دھواں، آگ۔ النحاسُ الاصفر او الشبہ: پیتل (Brass) النَّحَّاس: ٹھٹھیرا۔ تانبے کا کام کرنے والا، تانبے کی چیزیں بیچنے والا۔ النَّاحِس: منحوس چیزیں، نحوست پیدا کرنے والے امور۔

۲- نَحَّسَ الاخبار: خبروں کے تجسس میں رہنا، خبروں کی ٹوہ لگانا۔ تَنَحَّسَ الاخبار و عنہا: خبروں کی تجسس کرنا۔ خبروں کے پیچھے لگا رہنا۔ اِسْتَنْحَسَ الاخبارَ وعنہا: بمعنی تَنَحَّسَ الاخبارَ و عنہا۔ ___ الاخبار: خبروں کی تجسس کرنا۔

۳- تَنَحَّسَ الرجلُ: بھوکا ہونا ___ لشربِ الدواء: دوا پینے کے لئے بھوکا رہنا۔

۴- النحاس (بتثلیث النون): مزاج، طبیعت، کہا جاتا ہے: ھو کریم النحاس: وہ خوش مزاج ہے۔ وہ خوش طبع ہے۔

○ نَحِسَ ___ نَحَسًا: کو ناخوش کرنا، غمگین کرنا، کے پاس بدبختی لیجانا۔ نَحُسَ ___ نُحُوسَۃً و نَحَاسَۃً و نَحِسَ ___ نَحَسًا: بدقسمت ہونا، بدشگون ہونا، بدنصیب ہونا، منحوس ہونا۔ نَحَّسَ ہ: پر تانبے کا ملمع کرنا، تانبے کی قلعی کرنا، پر تانبے کی تہہ چڑھانا۔ نَحْس جمع نُحُوس: بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی، مصیبت، آفت، شامت۔ نَحِس و نَحْس: بدقسمت، بدنصیب، بدشگون، منحوس نامسعود، نامبارک، بدفال، آفت زدہ، مصیبت کا مارا، پُرآفت، مصیبت خیز، پُر حوادث، آفت خیز۔

نحص: نَحَصَ ـ نُحُوصًا تِ الناقۃُ: اونٹنی کا بہت موٹا ہونا یا مٹاپے کی وجہ سے حاملہ نہ ہونا۔ صفت نَحُوص و نَحِيص جمع نُحُص و نَحَائِص۔ النُّحص: پہاڑ کا دامن۔

نحض: نَحَضَ ـ نَحْضًا اللحمَ: گوشت سے پٹھے اتارنا۔ ___ فلانًا: بے اصرار کے ساتھ سوال کرنا۔ ___ العظمَ: ہڈی سے گوشت اتارنا۔ ___ السِنانَ: بھالا تیز یا باریک کرنا۔ ___ ہ الدھرُ: زمانہ کا کسی کو نقصان پہنچانا۔ ___ نُحُوضًا و نَحُضَ و انتحض: دبلا ہونا صفت نَحِيض و مَنْحُوض۔ نَحُضَ ـ نَحَاضَۃً: پُرگوشت ہونا صفت نَحِيض و مَنْحُوض۔ اِنتَحَضَ الشئَ: کو چھیلنا۔ النَّحْض (مص) جمع نِحَاض و نُحُوض: گوشت یا ٹھوس گوشت۔ النَّحْضَۃ: گوشت کا موٹا ٹکڑا۔

نحط: نَحَطَ ـ نَحْطًا و نَحِيطًا الفرسُ: گھوڑے کا تھکان سے آواز نکالنا۔ ___ نَحِيطًا الرجلُ: لمبے لمبے سانس لینا۔ ___ نَحْطًا السائلَ: سائل کو سوال پر جھڑکنا۔ النَّاحِط (فا): سخت کھانسی والا۔ النَّحْط و النُّحَاط و النَّحِيط: سینے کے اندر رونے کی دبی ہوئی آواز۔ النُّحْطَۃ: اسم مرہ، اونٹوں اور گھوڑوں کی سینے کی بیماری جس سے وہ کم جان بر ہوتے ہیں۔ النَّحَّاط: متکبر۔ مغرور المُنْحَطَۃ و المَنحُوطَۃ: سینے کی بیماری میں مبتلا۔

نحف: نَحِفَ ـ و نَحُفَ ـ نَحَافَۃً: دبلا ہونا، صفت نَحِف جمع نَحِفُون و نَحِيف جمع نُحَفَاء و نِحَاف و مَنْحُوف اَنْحَفَ ہ: کو دبلا کرنا۔

○ نَحَافَۃ: کمزوری، دبلا پن، لاغری، نَحِيف جمع نِحَاف و نُحَفَاء: پتلا، پتلا دبلا، پتلا اور لمبا، چھریرا، نازک بدن، جس پر چربی نہ ہو، نحیف، نزار، ناتواں۔ مَنْحَف: وزن کم کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پرہیزی غذا استعمال کی جائے۔ مَنْحُوف: پتلا، دبلا، پتلا اور لمبا، چھریرا، لاغر، کمزور، ناتوان۔ نحیف۔

نحل ۱- نَحَلَ ـ نُحُولًا جسمُہ: بیماری یا تکان سے دبلا ہونا۔ ___ ہ نَحْلًا ہ المرضُ: کو بیماری کا دبلا کر دینا۔ نَحِلَ ـ و نَحُلَ ـ نُحُولًا جسمُہ: دبلے جسم والا ہونا۔ اَنْحَلَ ہ الھمُّ او المرضُ: کو غم یا بیماری کا دبلا کر دینا۔ النَّحْل: لاغر و دبلا، نئے چاند (کہا جاتا ہے و أَہِلَّۃ نُحْلٌ: نئے باریک چاند) النُّحْل و النُّحْلَۃ: لاغری، النَّاحِل (فا) جمع نُحُول (جیسے شاہد و شہود): پتلا، پتلا دبلا۔ سیفٌ نَاحِل: پتلی تلوار۔ حَبْلٌ نَاحِل: لاغر اونٹ۔ ھِلَالٌ نَاحِل: پتلا ہلال) النَّاحِلَۃ جمع نَوَاحِل: ناحل کا مونث۔ النواحل: پتلی تلواریں۔ النَّحِيل جمع نَحْلَی: دبلا پتلا۔

۲- نَحَلَ ـ نُحْلًا الرجلُ: کو کچھ دینا۔ ___ المرأۃَ: عورت کا مہر دینا۔ اسم النِحلۃ۔ نَحَّلَ و اَنْحَلَ فلانًا مالًا: کو مالی دینا۔ ___ ہ مالًا: کو مال میں سے کچھ دینا۔ النِّحْل: عطا کی ہوئی چیز، عطیہ۔ واحد نَحْلَۃ (ح): شہد کی مکھیاں۔ النُّحْل و النُّحْلَی و النُّحلان: عطیہ، ہبہ۔ النِّحلۃ و النُّحْلَۃ جمع نِحَل و نُحَل: عطیہ، ہبہ، عورت کو اس کا مہر دینا۔

۳- نَحَلَ ـ نَحْلًا القولَ: غلط بات منسوب کرنا۔ نُحِلَ الشاعرُ قصیدۃً: شاعر کی طرف کوئی قصیدہ منسوب کرنا جو کسی اور کا ہو۔ تَنَحَّلَ و انتحل مذھبَ کذا او قبیلۃ کذا: کسی مذہب یا قبیلہ سے اپنے آپ کو منسوب کرنا۔ ___ الشعرَ او القولَ: کسی دوسرے کے شعر یا قول کو اپنا کہنا یا اپنے سے منسوب کرنا۔ النِحْلَۃ و النُّحْلَۃ جمع نِحَل و نُحَل: دعوی، مذہب، دین، کہا جاتا ہے مانِحْلَتُکَ تمہارا دین کیا ہے؟ نَحَلَ ـ نَحْلًا زیدًا: زید کو گالی دینا۔

○ نَحَلَ ـ و نَحُلَ ـ و نَحِلَ ـ نُحُولًا: لاغر ہونا، گھلنا، وزن کھو دینا، پتلا دبلا ہو جانا۔ نَحَلَ ـ نُحلًا ہ: کو عطیہ دینا، تحفہ دینا۔ ___ ہ ہ بہ: غلطی سے یا ناجائز طور پر کوئی چیز منسوب کرنا۔ اَنْحَلَ ہ: کو دبلا کرنا، نحیف کرنا۔ ___ ہ: کو کمزور کرنا۔ تَنَحَّلَ اور خصوصاً اِنْتَحَلَ ہ لنفسہ: کو اپنے سے منسوب کرنا، اپنے لئے دعوی کرنا۔ ___ ہ: ناجائز طور پر کو اپنے لئے لینا، اختیار کرنا، فرض کرنا یا ناجائز طور پر کسی حق کا دعوی کرنا۔ ___ ہ (کوئی مذہب یا دین) اختیار کرنا۔ ___ ہ (غیر ملکی الفاظ) مستعار لینا، اختیار کرنا، لے لینا۔ ___ ہ کو لینا۔ اِنْتَحَلَ الاسلامَ: اسلام کا مدعی ہونا انتحل اسمَہ: کسی کا نام اختیار کرنا۔ انتحل الأعرابیۃ: بدو ہونے کا دعوی کرنا، انتحل الاعذارَ: عذر سوچنا، عذر کرنا، بہانے بنانا یا کرنا۔ انتحلَ شخصیۃَ فلانٍ: فریب دینا کہ وہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص معلوم ہونا، کسی کی (جعلی) شخصیت اختیار کرنا۔ نَحْل: اسم جنس شہد کی مکھیاں واحد نَحْلَۃ: شہد کی مکھی۔ نِحْلَۃ جمع نِحَل: تحفہ، عطیہ، عقیدہ، ایمان، دین، مذہبی فرقہ، مسلک، نَحَّال: شہد کی مکھیاں پالنے والا۔ نحلی: نحل پرور۔ نِحَالَۃ: شہد کی مکھیاں پالنا، نحل پروری، نحل پروری کا فن، مَنْحَل جمع مَنَاحِل: شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔ نحل پروری کی جگہ۔ مُنْتَحِل: ادبی سرقہ کرنے والا، مضمون چرانے والا۔ اسم مُنْتَحَل: اختیار کردہ نام، عرف، عرفی نام، مشہور نام، مصنف کا فرضی نام۔

نحم ۱- نَحَمَ ـ نَحْمًا و نَحِيمًا و نَحَمَانًا الرجلُ: کھنکھارنا، گلا صاف کرنا۔ ___ الاسدُ: شیر کا دھاڑنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

رَجُلٌ نَحِم ہانپنے والا، دم چڑھا، پیٹ سے نکلنے کی آواز والا۔ النَّحِم کھانسی، کھانسنا۔ النُّحام واحد نُحَامَة (ح) ایک آبی پرندہ، لم ڈھینگ کی ایک قسم۔ النَّحام: بہت ہانپنے والا۔ کنجوس جب سوال کیا جائے تو بہت کھانسنے لگے۔ (ح) شیر۔ النَّحِيم: پیٹ سے نکلنے والی آواز۔

۲۔ اِنْتَحَمَ علی کذا و لکذا کا پختہ ارادہ کرنا

نَحَمَ ـِ نَحْمًا و نَحِيمًا و نَحَمَانًا: گلا صاف کرنا، خرخر کرنا، سوسوں کرنا، ہانپنا، سانس پھولنا، دم چڑھنا، سانس کھینچنا۔ نُحام لال لم ڈھینگ۔

نحن: نَحْنُ: ہم (دو یا جمع کیلئے)

نحو: نَحَا يَنْحُو نَحْوًا الشَّئَ: کا قصد و ارادہ کرنا۔ ـــ نَحْوَ فلان: کی پیروی کرنا ـــ الرجُلُ: ایک رخ پر جھکنا ـــ بصرَهُ اليه: کی طرف نظر پھیر کر دیکھنا۔ ـــ فلانًا عنه: کو سے پھیرنا، ہٹانا۔ الشَّئَ: کو جھکانا نَحِّيَ تَنْحِيَةً الرجلَ عن موضعه: کو اس کی جگہ سے پھیرنا اور ہٹانا۔ نَاحَى مُنَاحَاةً ہُ: ایک دوسرے کی طرف ہونا۔ أَنْحَى انحاءً: اعتماد کرنا اور ایک جانب جھکنا۔ ـــ علی فلان ضربا: کی طرف متوجہ ہونا۔ ـــ بصرَهُ عنه: سے نظر کو ہٹانا۔ ـــ عليه: پر اعتماد کرنا۔ تَنَحَّى الرجُلُ: اپنے کلام میں اعراب استعمال کرنا۔ ـ للشئ: پر اعتماد کرنا۔ ـ عن موضعه: اپنی جگہ سے الگ ہونا۔ اِنْتَحَى اِنْتِحَاءً الشَّئَ او الرجُلَ: چیز یا مرد کا قصد و ارادہ کرنا۔ ـــ لہ: پر اعتماد کرنا اور اس کی طرف جھکنا۔ ـ البعيرُ علی شقِهِ الايسر: اونٹ کا اپنی بائیں طرف جھکنا یا بائیں ٹیک لگانا۔ النَّاحِي (فا): جمع نَاحِيات و نَوَاحٍ و انْحِيَة: جانب۔ جہت۔ النَّحو ج أَنْحاء: جانب، جہت، راستہ، مثل، مقدار، قصد۔ ظرف و اسم ہوتا ہے علم النحو (جمع انحاء و نُحُوّ اسم تصغیر نُحَيَّة) کلام پر اعراب کا علم۔ علم نحو وہ علم جس میں کلام عرب کے اعراب اور ترکیب و افراد سے بحث ہوتی ہے۔ النَّحْوِي جمع نَحْوِيُّون: علم نحو کا عالم، نحوی۔

نحا ـُ و ـ نَحوًا ہ/ ہ کے پاس جانا، کی راہ لینا، کی طرف جانا، چلنا، حرکت کرنا یا رخ کرنا۔ ـ ہ کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لینا کی طرف، جانب سمت یا کے رخ جانا۔ نحا نحوَہ کی پیروی کرنا، کے نقش قدم پر چلنا، سے رہنمائی لینا کا سا ہونا، کا جیسا ہونا، اسی طبیعت کا ہونا، اسی قسم کا ہونا، اسی جیسی لائن پر ہونا، کے مانند ہونا۔ نحا نحوَ الباب دروازہ کی طرف چلنا۔ نحا به نحوَ الباب: کو دروازہ تک لیجانا۔ نَحَّى ہ کو

ایک طرف رکھنا، کی طرف دھکیلنا، جھاڑنا۔ ـــ ہ من کو سے ہٹانا، کو سے لیجانا۔ أنحى بصرَهُ من: سے اپنی آنکھیں پھیر لینا، موڑنا، ہٹانا، دور کرنا۔ ـــ علی: کا مخالف ہو جانا۔ ـــ علی ب: پر سے حملہ کرنا، کو سے زیر کرنا، پر سے قابو پانا، کو سے قابو میں لانا، پر ملامت وغیرہ کے ڈھیر لگانا، پر کی بھرمار کرنا۔ ـــ علی: پر توجہ کرنا، کی طرف توجہ کرنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا، کی کاوش کرنا۔ تَنَحَّى من / عن: سے پرے ہٹ جانا، سے دور ہو جانا، سے پیچھے ہٹ جانا۔ ـــ عن: کے بغیر گزارہ کرنا، سے دست بردار ہونا، کو چھوڑ دینا، سے قطع تعلق کرنا، کو اپنا ماننے سے انکار کر دینا، سے دستکش ہونا، کو ترک کرنا۔ ـــ ہ کسی جگہ کی طرف پسپا ہونا، کی طرف ہٹنا۔ ـــ ل: پر جھکنا، پر ٹیک لگانا، کا سہارا لینا۔ اِنْتَحَى ہ کی طرف مڑنا۔ ـ ل: پر جھکنا، کا سہارا لینا۔ اِنْتَحَى نَاحِيَةً: ایک طرف ہو جانا۔ اِنْتَحَى جانبًا: ایک طرف ہو جانا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، ہٹنا۔ نَحْو جمع أَنْحَاء: طرف، رخ، سمت، جانب، پہلو، ٹکڑا، قطعہ، حصہ، راستہ، طریقہ، انداز، اسلوب، وضع، طور، رواج، نَحْوَ: کے برابر، مطابق، کے مشابہ، مثل، مانند، سے ملتا جلتا، سا، ویسا ہی، کسی قدر، ویسا ہی (گرامر) گرامر۔ صرف و نحو، قواعد زبان، نحو، علم نحو، جملوں کی نحوی ترکیب، علی نحو ما: کے انداز میں، کی شکل میں، کے ڈھنگ پر، کے طریقہ پر، مثل، مانند۔ علی نحو ما: قدرے، کسی قدر، بلکہ، قریب قریب، علی هذا النحو اس طرح، اس انداز میں، اس پہلو سے۔ وعلی هذا النحو: وغیرہ وغیرہ و قس علی هذا، الخ۔ فی نحو الساعة السابعة: سات بجے کے قریب۔ من نَحْوِی: جہاں تک میرا تعلق ہے، نحوًا من: تقریبًا، کے قریب، کے لگ بھگ۔ فی انحاءِ الارض: تمام یا ساری زمین پر، پوری زمین پر، تمام روئے زمین پر۔ فی کل انحاءِ العالم (یا المعمورة): دنیا بھر میں، تمام دنیا میں، ساری دنیا میں۔ النحو المُقارِن: تقابلی گرامر۔ نَحْوَ: کی سمت میں، کے رخ، کی طرف، کو، کے مطابق، کے تناسب سے، کی مطابقت میں، جیسا، مانند، جیسے، کی طرح، مثلًا، مثال کے طور پر، تقریبًا، لگ بھگ، کے قریب۔ نَحْوِيّ نحو کا، نحو کے متعلق، نحوی، صرفی، صرف و نحو سے متعلق، قواعد زبان سے متعلق، قواعد دان، نحوی، ماہر لسانیات۔ مَنْحًى جمع مَنَاحٍ مقصد، منزل مقصود، غرض، طریقہ، انداز، طرز عمل، رویہ، سمت، طرف، رخ، (ادبی معنوں) صورت، پہلو، ... حلقہ

مَنَاحِيُ الحياة: زندگی کے شعبے۔ ناحٍ جمع نُحَاة: قواعد دان، نحوی، ماہر لسانیات۔ نَاحِيَة جمع نَوَاحٍ: پہلو، سمت، طرف، زاویہ، نگاہ، زاویہ نظر، نقطہ نگاہ، نقطہ نظر۔ رخ، پہلو، خطہ، دائرہ، حصہ، حلقہ، میدان، ضلع (عراق میں) قضاء کا چھوٹا حصہ (سب ڈویژن) جو برطانوی ضلع (جسے کاؤنٹی کہتے ہیں) کے برابر ہے (کرہ وغیرہ) کا گوشہ، کونا یا ٹکڑ، نَاحِيَةَ کی سمت، کے رخ، کی طرف، کی جانب۔ من ناحية: جہاں تک اس کا تعلق ہے، کے بارے میں، کے متعلق، کے باب میں۔ من ناحيةٍ أخرى: دوسری طرف۔ من الناحيةِ العسكرية: عسکری نقطہ یا زاویہ نظر (یا نگاہ) سے۔ من ناحيةٍ قانونيةٍ: آئینی، از روئے قانون۔ من ناحيةٍ واقِعيةٍ: اصلی، حقیقی (De facto)، سليمُ النواحي: صحیح سالم (جسم والا) مُتَعَدِّدُ النواحي: کثیر الاضلاع، متعدد پہلوؤں والا، گوناں گوں صلاحیتوں والا۔ من جميع النواحي: ہر پہلو سے۔

نحی: ۱۔ نَحَى يَنْحَى و يَنْحِي نَحْيًا الشَّئَ: کو زائل کرنا۔ ـ بصرَهُ اليه: کی طرف نگاہ پھیرنا۔ ـ يَنْحِي نَحْيًا ہُ: کو ایک جانب کرنا۔ نَحَّى تَنْحِيَةً و تَنَحَّى تَنَحِّيًا ہُ: کو زائل کرنا، جھکانا، تو (اس کا) زائل ہونا اور جھک جانا۔ أَنْحَى له اسلاحَ کو ہتھیار سے مارنا۔ ـ عليه بالسيف پر تلوار سے متوجہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: أَنْحَى عليه باللوائم: پر ملامت کے ساتھ متوجہ ہونا۔ اِنْتَحَى فی الأمرِ کی کوشش کرنا۔ ـــ فی الشئ: کا سہارا لینا۔ النَّحِيَّة قصد، نشانہ، کہا جاتا ہے: فلانٌ نَحِيَّةُ الشدائِد: فلاں مصیبتوں کا نشانہ ہے۔ المَنْحَاة جمع مَنَاحٍ بیحد ارندی۔ پانی لانے والے اونٹ کا راستہ۔ اهلُ المَنْحَاة دور کے لوگ جو رشتہ دار نہ ہوں۔

۲۔ نَحَى يَنْحَى و يَنْحِي نَحْيًا اللبنَ: دودھ بلونا۔ النَّحْي والنِحْي والنُحْي جمع انحاء و نِحَاء و نُحِيّ: گھی کی مشک، دودھ بلونے کا برتن، بلوئی۔

۳۔ النَّحْي والنِحْي والنُحْي جمع أَنْحَاء و نِحَاء و نُحِيّ چوڑے پھل کا تیر۔

(نحی کے جدید معانی اوپر درج کئے جا چکے ہیں)

نخ: ۱۔ نَخَّ ـُ نَخًّا: تیز چلنا۔ الإبلَ اونٹوں کو تیز ہانکنا۔ ـــ الإبلَ و بالإبلِ: اونٹوں کو اخ اخ یا نخ نخ کہہ کر بٹھانا، سرنیچا اور جھکانے پر عام لوگ نخ کہتے ہیں۔ النَّخَة: اسم مرة۔ کام کرنے والے بیل، پتلا دبلا مرد یا پتلی دبلی عورت۔ النُّخَّة کام کرنے والے بیل۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ النُخ گودا، مغز۔ النَخّ جمع اَنْخاخ لمبا فرش۔ النخة: ہلکی بارش۔ غیر مصدقہ خبر النُخاخة گودا، مغز۔

۳۔ تَنَخْنَخَ البعیرَ و تَنَخْنَخَ اونٹ کو بٹھانا اور اونٹ کا بیٹھ جانا۔ ___ فلاناً کو جھڑکنا، ہٹانا۔ ___ الرجُلُ تیز چلنا۔ ___ بالابل اونٹوں کو اخ اخ کہہ کر جھڑکنا تا کہ وہ بیٹھ جائیں۔

○ نَخٌ جمع اَنْخاخ چٹائی، بوریا، نمدہ، قالین، غالیچہ۔

نخب ا۔ نَخَبَ ـ نَخْبًا الشئَ کو کھینچنا، کا خلاصہ نکالنا۔ ___ الصقرُ الصید باز کا شکار کے دل کو نکالنا۔ نَخِبَ ـ نَخَبًا بزدل ہونا صفت نَخِبٌ و نَخْبٌ و نِخَبٌ و نَخِبٌ و اَنْخَبُ۔ اَنْخَبَ الرجُلُ بزدل بچہ کا باپ ہونا، بہادر بچہ کا باپ ہونا (ضد) اِنْتَخَبَ الشئَ: کو کھینچنا۔ پسند کرنا۔

النَخْب (مص) جام صحت (عام لوگ محبوب یا دوست کی صحت یابی پر کہتے ہیں شرب سرّہ او علی صحته اس نے اس کا جام صحت پیا) بزدلی، تھڑدلی، ڈرپوک۔ النَخْبَة بزدل، ڈرپوک۔ النُخْبَة جمع نُخَبات چیدہ لوگ، شراب کا بڑا گھونٹ ___ و النُخَب جمع نُخَب پسندیدہ چیز۔ النُخَبات بزدل لوگ۔ النِخاب دل کی جھلی۔ النَخِیب جمع نُخُب بزدل، دل گردہ سے عاری۔ المِنْخاب جمع مَناخِیب کمزور، بے فیض۔ المَنْخُوب دبلا، لاغر۔ و الیَنْخُوب: بزدل، دل گردہ سے عاری۔

۲۔ نَخَبَ ـ نُخَبات النملة چیونٹی کا کاٹنا۔

۳۔ النَخَب و النَخَبَة سرین۔ الیَنْخُوب لمبا۔

○ نَخَبَ ـ نَخْبًا و اِنْتَخَبَ ھ کو چننا، چھانٹنا، کا انتخاب کرنا، کو منتخب کرنا۔ ___ ہ کا انتخاب یا چناؤ کرنا۔ نخب و انتخب ووٹ دینا، عام انتخابات ہونا یا کرنا، نَخْب انتخاب، چناؤ، کسی کا جام صحت۔ شرب نَخْبَة: کا جام صحت نوش کرنا۔ نُخْبَة جمع نُخَب منتخب ٹکڑا یا چیز، منتخب عبارت، بہترین، بہترین حصہ، انتخاب، لب لباب عطر، ممتاز افراد، زعماء۔ اِنْتِخاب جمع اِنْتِخابات الیکشن، چناؤ، انتخاب۔ اِنْتِخابی: الیکشن یا الیکشنوں کا، کے متعلق انتخابی، رائے دہندگان کا مَعْرَکَةٌ اِنْتِخابِیَّة انتخابی مہم۔ ناخِب و مُنْتَخِب جمع ناخِبُون و مُنْتَخِبُون انتخاب کنندہ، رائے دہندہ، ووٹر، مَنْخُوب دبلا پتلا، لاغر مُنْتَخَب چنا ہوا، منتخب، انتخاب کیا ہوا۔ منتخب امیدوار جمع مُنْتَخَبات: ٹیم (کھیلوں کی) مُنْتَخَبات منتخب ٹکڑے، منتخب نظمیں، منتخب عبارتیں۔

نخت: نَخَتَ ـ نَخْتًا الطائِرُ الشئَ: پر پرندہ کا چونچ مارنا۔ ___ القولَ بات کو انتہا تک پہنچانا۔

نخج: نَخَجَ ـ نَخْجًا السیلُ فی سند الوادی: سیلاب کا کناروں سے ٹکرانا۔ ___ الدلوَ و بالدلو فی البئر ڈول کو پانی سے بھرنے کیلئے کنویں میں ہلانا۔ اِسْتَنْخَجَ الرجُلُ سختی کے بعد نرم ہونا۔

نخر ا۔ نَخَرَ ـ نُخَرًا و نَخِیرًا الانسانُ او الدابةُ: انسان یا جانور کا خراٹے لینا ___ نَخْرًا الحالبُ الناقةَ دودھ دوہنے والے کا اونٹنی کی ناک کے نتھنوں میں انگلی ڈال کر سہلانا تا کہ دودھ تھنوں میں اتر آئے۔ نَخِرَ ـ نَخَرًا العودُ او العظمُ و نَخُوۃٌ لکڑی یا ہڈی وغیرہ کا بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہونا صفت ناخِر و نَخِر۔ نَخَّرَہُ: کو بوسیدہ کرنا، سے گفتگو کرنا۔

الناخِر (فا) جمع نُخُر بوسیدہ، ریزہ ریزہ کہا جاتا ہے۔ مابالدار ناخِرٌ گھر میں کوئی نہیں۔ (ح) جملہ آور سؤر۔ گدھا۔ گھوڑا۔ الناخِرَة: ناخر کا مؤنث، بوسیدہ ہڈیاں، گھوڑے یا گدھے۔ النُخْرُ جمع نُخَر: ناک کا اگلا حصہ ___ من الریح ہوا کی تیز رفتاری النُخْرَة جمع نُخَر ناک کا اگلا حصہ النَخّار بہت خراٹے لینے والا۔ المَنْخَر و المِنْخَر و المَنْخِر و المُنْخُر و المُنْخُور جمع مَناخِر و مَناخِیر (ع ا) ناک۔

۲۔ النِخْوار جمع نَخاوِرة متکبر۔ بزدل، کمزور، شریف۔

○ نَخَرَ ـ نُخُرًا و نَخِیرًا فی: کو کاٹنا، کترنا، (کیڑے کا) کسی چیز کو کریدنا، کھودنا کھا جانا۔ ___ ھ کو تباہ کرنا، کمزور کرنا، کی جڑیں کھوکھلی کرنا، نَخِرَ یَنْخَرُ نَخَرًا: گلنا، سڑنا، سوراخوں سے پُر ہونا، گھن یا کیڑا لگا ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ریزہ ریزہ ہونا۔ نَخْر نتھنوں سے آواز نکالنا، خراٹے لینا۔ سڑنے کی حالت، بوسیدگی، تباہی، دانتوں کی بوسیدگی۔ عفونت، تعفن، سڑاند۔ نَخِر و ناخِر گھن لگا، کیڑا لگا، بوسیدہ، گلا سڑا۔ نَخِیر نتھنوں سے آواز نکالنا، خراٹے، خراٹے لینا، غراہٹ۔ مَنْخَر و مَنْخِر و مِنْخَر جمع مَناخِر: نتھنا، ناک، مِنْخار جمع مَناخِیر نتھنا، ناک

۳۔ نَخْرَبَ الشجرةَ درخت میں سوراخ کرنا۔ النُخْرُوب جمع نَخارِیب سوراخ، پتھر کی دراڑ۔ نَخارِیبُ النحل شہد کے چھتے کے خانے۔

○ نُخْرُوب جمع نَخارِیب سوراخ، گڑھا، کھوہ، خانہ، شہد کی مکھیوں کا چھتا۔

نخز: نَخَزَ ـ نَخْزًا ہ بالحدیدة: کو لوہے سے زخمی کرنا۔ ___ ہ بکلمة کو کسی بات سے دکھ پہنچانا۔

○ نَخَزَ ـ نَخْزًا ھ کیڑے کا کسی چیز میں سوراخ کرنا۔

نخس ا۔ نَخَسَ ـ نَخْسًا الدابةَ جانور کے پہلو یا پٹھے (پشت میں) لکڑی وغیرہ چبھونا تا کہ وہ تیز چلے۔ ___ البکرةَ: چرخی میں پچڑ لگانا۔ ___ بفلان کو بھڑکانا، برانگیختہ کرنا۔ نُخِسَ البعیرُ اونٹ کا خارشی دم والا ہونا صفت مَنْخُوس، تَناخَسَتِ الغنمُ بکریوں کا سردی کی وجہ سے ایک دوسرے سے گرمی حاصل کرنا۔ ___ تِ الغدرانُ تالابوں کا ایک دوسرے میں پانی پہنچانا۔ الناخِس (فا) اونٹ کی دم کی کھجلی۔ ___ و النَخُوس (ح) جوان پہاڑی بکرا۔ النِخاس جمع نُخُس: چرخی کے سوراخ میں لگائی ہوئی پچڑ۔ نِخاسَا البیت دروازے کے ستون۔ النِخاسَة بمعنی نِخاس ___ و النَخاسَة غلاموں کی بیع، (فروخت) جانوروں کی بیع (فروخت)۔ النَخّاس بہت چبھونے والا۔ غلاموں یا جانوروں کا تاجر یا دلال۔ النَخِیس: چرخی میں لگی ہوئی پچڑ۔ المِنْخَس جمع مَناخِس: مہمیز۔ آنکس۔

۲۔ نُخِسَ لحمهُ کم گوشت والا ہونا۔

۳۔ النَخِیسَة بھیڑ بکری کا ملا جلا دودھ، مکھن۔

○ نَخَسَ ـ نَخْسًا ھ (جانور) کو ایڑ لگانا، کوئی چیز چبھونا، آر چبھونا، جانور کو تیز چلانا، آگے بڑھانا، ہانکنا، نَخّاس: مویشیوں کا بیوپاری، غلاموں کی تجارت کرنے والا۔ طوائفوں اور پیشہ ور لڑکیوں کا فراہم کرنے والا۔ نِخاسَة مویشیوں کا بیوپار، غلاموں کی تجارت، طوائفوں اور پیشہ ور لڑکیوں کی تجارت۔ مِنْخَس جمع مَناخِس مہمیز، آر، آنکس، نوکدار اوزار (جانوروں کو ہانکنے کے لئے)۔ مِنْخاس جمع مناخیس: مہمیز، آنکس، نوکدار چیز (جانوروں کو ہانکنے کے لئے)۔

نخش ا۔ نَخَشَ ـ نَخْشًا ہ کو اکسانا، بھڑکانا۔ ___ الشئَ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ ___ الدابةَ کو تیز ہانکنا۔ تَنَخَّشَ الی کذا: کی طرف حرکت کرنا۔ النَخْش (مص) نال کا ایک حصہ۔

۲۔ نَخَشَ ـ نَخْشًا العودَ لکڑی کو چھیلنا۔ ___ ہ کو تکلیف پہنچانا۔ ___ نُخْشًا نُخِشَ دبلا ہونا۔ نَخِشَ ـ نَخَشًا الشئُ چیز کا نچلا حصہ سے بوسیدہ ہونا۔

○ نَخْشُوش جمع نَخاشِیش جھگڑا۔

نخص: نَخَصَ ـ نَخْصًا الرجلُ: دبلا ہونا، جھریوں والا ہونا۔ ___ و اَنْخَصَہُ الکبرُ او المرضُ: بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے دبلا ہونا جھریوں والا ہونا۔ نَخِصَ ـ نَخَصًا و انتخصَ لحمهُ: کم گوشت ہونا۔ عجوزٌ ناخِصٌ جھریوں والی لاغر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بڑھیا۔

نخط ۱۔ نَخَطَ ـُ نَخْطًا الیھم :پر اچانک آنا۔ النَخْط والنُخْط :لوگ، کہا جاتا ہے ما اَدْرِی ای النَخْط هو :میں نہیں جانتا وہ کس قسم کا آدمی ہے۔

۲۔ نَخَطَ ـــ نَخْطًا المخاط من اَنفِه :ناک کا رینٹ صاف کرنا، ناک جھاڑنا۔ ـــ نَخِیطًا بفلانٍ :کو گالی دینا، کی غیبت کرنا۔

اِنْتَخَطَ ۂ :کے مشابہ ہونا۔ المخاطَ من انفه :ناک جھاڑنا، ناک کا رینٹ صاف کرنا۔ النُخَط :بچہ کی جھلی کا پانی۔ النَخط :نیزوں سے کھیلنے والے بہادر۔

۳۔ نَخَطَ ـُ نَخیطًا علیه :پر تکبر کرنا۔

۴۔ النُخْط :حرام مغز۔

نخع ۱۔ نَخَعَ ـــ نَخْعًا الذبیحةَ :ذبح کرتے وقت چھری کو مذبوحہ جانور کے حرام مغز تک اتار دینا۔ ـــ الرجُلُ :سینہ یا ناک سے کوئی چیز دور کرنا۔ ـــ ۂ الطاعةَ او النصیحةَ :سے اطاعت اور نصیحت میں خلوص برتنا۔ ـــ الامرَ علمًا :معاملہ سے خوب باخبر ہونا۔ نَخِعَ ـــ نَخَعًا العودُ او النباتُ :لکڑی یا پودے میں پانی رواں ہونا۔ تَنَخَّعَ الرجُلُ :گلا صاف کرنا، کھنکھارنا، کھنکھار کر بلغم نکالنا، بلغم تھوکنا۔ ـــ السحابُ :بادل کا سارا پانی برسنا۔ اِنْتَخَعَ السحابُ :بادل کا سارا پانی برسانا۔ ـــ الرجُلُ عن ارضه :اپنی زمین سے دور ہونا۔ النخاع (تثلیث النون) جمع نُخُع :ریڑھ کی ہڈی کا گودا، مغز، حرام مغز کا رشتہ Spinal Cord، ہڈی کا گودا، ہڈیوں کا مغز، حرام مغز، مخ، دماغ، النُخاعة :کھنکھارتے وقت سینہ یا ناک سے نکلنے والی بلغم اور مواد۔ الأَنْخَع :اسم تفضیل۔ بہت ذلیل، بہت مہلک یا ہلاک کرنے والا۔ المَنْخَع (ع ا) :سر سے ملحق گردن کا پہلا منکا۔ حرام مغز کٹنے کی جگہ۔

۲۔ نَخَعَ ـــ نُخُوعًا لهُ بحقه :سے اس کے حق کا اقرار کرنا، عام لوگ جب نَخَعَهٗ کہتے ہیں تو معنی ہوتا ہے: اس نے اسے سختی سے جھنجھوڑا۔ نَخِعَ ـ نَخَعًا فلانٌ بحقی :کسی کا میرے حق کا اقرار کرنا۔ النُخُوع (مص) :حق کا اقرار۔

◌ نُخاعة :بلغم، بلغمی مادہ، رطوبت، چپچپا مادہ، تھوک، رال، کھنکھار کر نکالی ہوئی بلغم۔

نخف : نَخَفَ ـَ نَخْفًا و نَخِیفًا : (بکری کا) چھینکتے وقت آواز نکالنا۔ اُنْتُخِفَ :چھینکتے ہوئے بہت آواز نکالنا۔ النُخفة :پہاڑ کی چوٹی کا گڑھا۔ النِخاف جمع انخفة :موزہ۔

نخل : نَخَلَ ـُ نَخْلاً الدقیقَ :آٹا چھاننا اور بھوسی نکالنا۔ ـ الشیءَ :کو پسند کرنا، صاف کرنا۔ ـ النصیحةَ او الودَّ لفلان :سے خاص دوستی کرنا یا کو خالص نصیحت کرنا۔ ـــ نَخْلاً و نَخَّلَ السحابُ الثلجَ :بادل کا برف برسانا۔ برفباری کرنا۔ تَنَخَّلَ و انْتَخَلَ الشیءَ :کو چن کر عمدہ حصہ لینا۔ الناخِل فا :کہا جاتا ہے: انه ناخِلُ الصدر :وہ بے غرض نصیحت کرنے والا ہے۔ نصیحةٌ ناخِلَة :سچی اور مخلصانہ نصیحت۔ النَخل واحد نَخْلَة (ن) :کھجور کا درخت درخت خرما، اس کے پھل سے مربے اور ایک قسم کی شراب بنائی جاتی ہے۔ جو نبیذ البلح (کھجور کی شراب) کے نام سے معروف ہے۔ النُخالَة :بھوسی، چھانن۔ النَخّال :بہت کھجوروں کے درختوں والا۔ آٹا چھاننے والا۔ النَخِیل واحد نَخِیلَة (ن) :کھجور کا درخت، چھوہارے کا درخت۔ النَخِیلة جمع نَخائِل :مخلصانہ نصیحت (کہا جاتا ہے: لا یقبل اللّٰهُ الا نخائِل القلوب: اللہ تعالیٰ تو صرف خالص نیتیں قبول کرتا ہے) طبیعت۔ المُنْخُل و المُنْخَل جمع مَناخِل :چھلنی۔

◌ نَخَلَ ـُ نَخْلاً و تَنَخَّلَ و انْتَخَلَ ہ :کو چھاننا، رولنا، پھٹکنا، چھان کر الگ کرنا، چھان بین کرنا، پرکھنا، لا یساوی مِلءَ اُذُنِهِ نُخالةً :وہ ایک مڑے ہوئے سکے کے مول کا بھی نہیں۔

نخم ۱۔ نَخَمَ ـُ نَخْمًا :کھیلنا، عمدہ گانا، صفت ناخِم۔ النَخْمَة :حسن، شجاعت۔

۲۔ نَخِمَ ـ نَخَمًا الرجُلُ :تھک جانا۔ نَخْمًا و نَخَمًا و تَنَخَّمَ :کھنکھارنا، ناک صاف کرنا۔ النَخْمة اسم مرۃ۔ کھنکھار، رینٹ، سینے سے نکلنے والی بلغم یا ناک سے جھاڑی ہوئی رینٹ مادہ، تھوک، بلغم، بلغمی مادہ، رطوبت، چپچپا مادہ، لیس دار النُخامة :کھنکھار، رینٹ، بلغم۔

◌ نَخِمَ ـ نَخْمًا و تَنَخَّمَ :گلا صاف کرنا، بلغم تھوکنا، کھنکھار کر بلغم نکالنا۔ غُدَّةٌ نُخامِیة :بلغم یا کف پیدا کرنے والا وجود۔

نخو : نَخا یَنْخُو نَخْوَةً الرجُلَ :کی تعریف کرنا۔ ـــ نُخِیَ نَخْوَةً الرجُلُ :فخر کرنا، عظمت ظاہر کرنا۔ نَخّی ۂ :کو للچانا، پھسلانا، ترغیب دینا، اکسانا، ابھارنا۔ انْتَخَی انتخاءً :نخوت و تکبر میں بڑھنا۔ انْتَخی انتخاءً علینا : (ہمارے ساتھ) غرور سے پیش آنا۔ ـــ من کذا :سے تنگ آ جانا۔ النَخْوَة (مص) :بہادری مروت، عظمت، بڑائی، تکبر، فخر۔

◌ [illegible]

مغرور ہونا، نخوت پسند ہونا، متکبر ہونا، حقارت سے دیکھنے والا یا نک چڑھا ہونا۔ نَخَّی و انْتَخی ۂ :کو برافروختہ کرنا، ابھارنا، اکسانا، برانگیختہ کرنا، میں تحریک پیدا کرنا، جگانا، بیدار کرنا، (جذبات وغیرہ)۔ نَخوة :خود پسندی، غرور، تکبر، اکڑ، اکڑفوں، ہیکڑی، کبر، نخوت، فخر و ناز، فخر و مباہات، عظمت، باوقار طرز عمل، عزت کا احساس، خودداری، بلندی، رفعت، سخاوت، فیاضی، کریم النفسی۔

ند : نَدَّ ـِ نَدًّا و نَدِیدًا و نُدُودًا و نِدادًا البعیرُ :اونٹ کا بدک کر بھاگنا۔ کہا جاتا ہے: نَدَّتِ الکلمةُ :کلمہ کا شاذ ہونا۔ نَدَّدَ الإبلَ :اونٹوں کو متفرق کرنا، منتشر کرنا۔ ـــ بالشیءِ :کو لوگوں میں مشہور کرنا، شائع کرنا۔ ـــ بفلانٍ :کے عیوب کھولنا، کو قبیح بات سنانا۔ ـــ صوتَهٗ :اپنی آواز اونچی کرنا۔ نادَّ مُنادَّةً ۂ :کی مخالفت کرنا اَنَدَّ الإبلَ :اونٹوں کو منتشر کرنا۔ تَنادَّ القومُ :باہم منافرت کرنا یا مخالفت کرنا، بکھر جانا۔ ـــ ت الإبلُ :اونٹوں کا بدک کر بھاگ جانا۔ النادّ جمع نُدّاد فا :کہا جاتا ہے: لیس لهم نادٌّ :ان کے لئے رزق نہیں۔ النَدّ :ٹیلہ، اونچی پہاڑی۔ عود۔ اگربتی (فارسی لفظ) النِدّ جمع اَنْداد :مثل، نظیر، مالهٗ نِدّ :اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اگر کی لکڑی۔ النَدِید جمع نُدَداء م نَدِیدَة جمع نَدائِد :نظیر، مالهٗ ندید :اس کا کوئی نظیر نہیں۔ التَناد مص، یوم التنادّ و یوم التناد :روز قیامت۔ ذهبوا انادِید و تَنادِید :وہ چاروں طرف بکھر گئے۔

◌ نَدَّدَ بـ :کو بے نقاب کرنا، کی اصلیت بتانا، کی حقیقت سے آگاہ کرنا، پر تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا، کی عیب جوئی کرنا، نِدّ جمع انداد :ہمسر، ہم رتبہ، ہم چشم، نظیر، مثال نمونہ، شریک، دشمن، حریف، رقیب، ثانی نَدِید جمع نُدَداء :ہم سر، حریف، رقیب۔

ندأ ۱۔ نَدَأَ ـَ نَدْأً ۂ :کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا۔

۲۔ نَدَأَ ـــ نَدْأً اللحمَ :گوشت کو آگ میں دبانا۔ ـــ المَلَّةَ :بھوبھل بنانا۔ النَدِیء :آگ میں دبایا جانے والا گوشت۔

۳۔ نَدَأَ ـــ نَدْأً علیهم :کے سامنے ظاہر ہونا۔ النَدِیّ :سورج کے غروب یا طلوع کے وقت بادلوں کی سرخی۔ قوس قزح، دھنک۔ النَدْأة و النُدْأة :بمعنی النَدِیّ، تیز سورج کا دائرہ، چاند کا ہالہ۔

۴۔ النَدْأة :مال یا مویشیوں کی کثرت۔ النُدْأة :دولت یا مویشیوں کی کثرت۔ ـــ جمع نُدَاء :پودوں کے متفرق قطعوں میں سے ایک۔ النُداءة :پودوں کے متفرق قطعوں میں سے ایک۔ جمع نُدَأ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ندب ۱- نَدَبَ ـُ نَدْبًا فلانًا للامر او الی الامر: کو بلانا اور کسی کام کے کرنے کے لئے نامزد کرنا اور اکسانا۔ ــ ہٗ الی الحرب: کو لڑائی کی طرف روانہ کرنا۔ صفت فاعلی نادب صفت مفعولی مندوب اور کام مندوب الیہ اوراسم الندبۃ. نَدُبَ ـُ نَدَابَۃً الرجلُ: زیرک ہونا، ہوشیار و چست ہونا۔ اِنْتَدَبَ ہٗ لِاَمرٍ: کے لئے بلاوے پر آنا۔ ـــ لفلان: کی تردید کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَکَلَّمَ فانتدب له فلانٌ: وہ بولا تو فلان نے اس کی تردید کی۔ خذما انتدب: جو آسان ہو لے لو۔

اَلنَّدْب (مص) جمع نُدُوب و نُدَباء: فضیلتوں کی طرف پیش قدمی کرنے والا، چست، ذہین، شریف دانا، کم حاجت والا۔ فرسٌ نَدْبٌ: تیز گھوڑا۔ النَّدَب جمع انداب: تیز تیر پھینکنے والی کمان، کہا جاتا ہے: رَمَیْنا نَدَبًا: ہم نے تیز تیز پھینکنے والی کمان کا قصد کیا۔ النَّدْبَۃ: ندب کا مونث، اسم مرۃ۔ المِنْدَبٰی: کم حاجت آدمی۔ حاجت جلد پوری کرنے والا۔

۲- نَدَبَ ـُ نَدْبًا المیّتَ: میت پر رونا۔ میت کی خوبیاں بیان کرنا۔ النُّدْبَۃ: میت کے محاسن بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ عربیٌّ نُدْبَۃٌ: خوش بیان عرب۔ المَنْدَبُ جمع مَنادِب: میت پر رونا۔

۳- نَدِبَ ـَ نَدَبًا و نُدُوبًا و نُدُوبَۃً الظهرُ: پیٹھ کا زخم کے نشان والی ہونا صفت: نَدِیب۔ ــ نَدَبًا الجرحُ: زخم کے نشان کا سخت ہونا۔ اَنْدَبَ الجرحُ: زخم کے نشان کا سخت ہونا۔ ـــ الجرحُ فلانًا: زخم کا کسی پر نشان ڈالنا۔ ـــ بظهره و فی ظهره: کی پیٹھ پر زخم کے نشان چھوڑنا۔ النَّدَب (مص) ج نُدُب: زخم کا نشان۔ النَّدْبَۃ و النَّدَبَۃ جمع نَدَب و جمع نُدُوب و انداب: جلد پر باقی زخم کا نشان۔

۴- اَنْدَبَ فلانٌ نفسَهٗ و بنفسِهٖ: کسی کا اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ النَّدَب جمع انداب: شرط، گھوڑ دوڑ میں بدی ہوئی رقم، مقابلہ میں بدی ہوئی رقم۔

۵- نَدَبَ ـُ نَدْبًا ہ ل: کو کسی عہدہ پر تعینات کرنا، مقرر کرنا، کو کے لئے مقرر کرنا۔ ــ ہ کو بطور نمائندہ یا نائب بنا کر بھیجنا، کی جگہ قائم مقام ہونا، کی قائم مقامی کرنا۔ ــ ہ ب: کو کوئی کام تفریض کرنا، کام کو کے سپرد کرنا، نَدِبَ ـَ نَدَبًا: انگور آنا، زخم اچھا ہونا یا مندمل ہونا۔ اَنْدَبَ زخم پر انگور آنا، زخم مندمل ہونا۔ اِنْتَدَبَ ہ ل: کو کسی عہدے پر تعینات کرنا، مقرر کرنا، کو کسی کام سرانجام دینے کے لئے مقرر کرنا، کو کچھ کرنے کا کام تفویض کرنا، کے سپرد کوئی کام کرنا۔ ـــ ہ ل ب: کو کچھ کرنے کے لئے کا اختیار دینا، مختار کرنا، مجاز کرنا، کو کچھ کرنے کیلئے اجازت دینا۔ ــ ہ ل: کو کچھ کرنے کا حکم دینا، کے سپرد کوئی کام کرنا۔ ــ ہ ل: (عسکری اصطلاح میں) کو کسی خاص مہم پر روانہ کرنا، منتقل کرنا، کو خاص فرائض ادا کرنے کے لئے مقرر کرنا۔ ــ نفسَهٗ ل: کلیۃً کسی کام میں لگ جانا، اپنے آپ کو کیلئے وقف کرنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا۔ ــ ہ علی: کسی ملک کو کسی دوسرے ملک پر انتدابی اختیارات دینا۔ ــ ل: کسی حکم یا ہدایت پر بخوشی عمل کرنا، کے لئے تیار ہونا، راضی ہونا، رضامند ہونا، آمادہ ہونا، مستعد ہونا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرنا، کی طرف متوجہ ہونا، نَدْب رونا، گریہ وزاری، ماتم۔ نُدبہ، سخت افسوس، مرثیہ، نوحہ، بین، تفویض، پروانگی، اختیار، مختار نامہ، نیابت، فریضہ مفوضہ، ذمہ داری، سپردگی (اختیارات) قائم مقامی، تقرری، تعیناتی، جواز حکم اجازت، کسی علاقہ کو کسی ریاست کے زیر انتظام دینا، کسی ریاست کو علاقہ غیر پر حکومت کا اختیار دینا۔ نَدَب جمع اَنْداب و نُدُوب داغ، زخم کا نشان، نشتر کا نشان، زخم کا داغ۔ نَدْبَۃ جمع اَنْداب و نُدُوب: داغ، زخم کا نشان، زخم کا داغ، نشتر کا نشان، خارش زدہ زخم، کھرنڈ، نُدْبَۃ: میت پر گریہ و زاری، واویلا ماتم، فغان، مرثیہ، نوحہ، تدفین کے وقت کا گانا، ماتمی راگ۔ نَدَّابۃ جمع نَدَّابات: کرایہ کی نوحہ گریں۔ مَنْدَب جمع مَنادِب: گریہ وزاری، نوحہ گری، ماتم۔ بابُ المَنْدَب جنوب غربی عرب اور افریقہ کے درمیان آبنائے کا نام۔ اِنْتِداب: نیابت، قائم مقامی، ماموری، تعیناتی، تقرر، سپردگی، تفریض، تحویل، اجازت، حوالگی، کسی کام کا سونپنا، حکم دینا، ہدایت کرنا، کسی کام کی ذمہ داری عائد کرنا، جواز، حکم، اجازت، کسی خاص مہم پر روانہ کرنا، فوج یا بیڑے کا وہ حصہ جو علیحدہ مہم پر بھیجا جائے، تفویض، خاص کام (جمع انتدابات): کسی علاقہ پر کسی ریاست کو حکومت کا اختیار دینا، کسی علاقہ کو کسی ریاست کے زیر انتظام دینا، لازمی قاعدہ۔ دولۃ الانتداب: انتدابی طاقت لجنۃ الانتدابات (اقوام متحدہ کا) انتدابی کمیشن۔ انتدابی: انتدابی۔ ادارۃٌ اِنْتِدابِیَّۃ: انتدابی ادارہ (انتظامیہ) نادِبَۃ جمع نادِبات و نَوادِب: کرایہ کی نوحہ گر۔ مَنْدُوب: جس پر ماتم کیا گیا، آہ و بکا کی گئی، جس کا افسوس کیا گیا، جس کا ماتم ہو رہا ہے، جس کی موت پر افسوس ہو، افسوسناک، غمناک، شرمناک، جمع مَنْدُوبُون: قائم مقام، نمائندہ، وکیل، مندوب، کارندہ، کارکن، نیم اہلکار، کمشنر، حاکم اعلیٰ، پریس کا نمائندہ، مراسلہ نگار، نامہ نگار، (اخبار کا) رپورٹر (اسلامی قانون کی اصلاح میں) جس کی سفارش کی گئی ہو، جس کا مشورہ دیا گیا ہو، جسے قابل قبول بنایا گیا ہو۔ مَنْدُوبُ التامِین: انشورنس ایجنٹ، بیمہ ایجنٹ (Insurance agent)، مندوبٌ خاصٌ: خصوصی سفارتی نمائندہ مَنْدُوبٌ سامٍ: ہائی کمشنر (High commissioner)، مندوبٌ فوقَ العادۃ: غیر معمولی سفیر Ambassader Extraordinary۔ مندوبٌ مُفَوَّضٌ: پورے اختیارات والا نمائندہ ہو، مختار عام Pleniptentiary وزیر، مندوبٌ فوقَ العادۃ و وزیرٌ مُفَوَّضٌ: غیر معمولی سفیر اور مدار المہام (Ambassade Extra ordinary and minister plenipotentiory) مَنْدُوبِیَّۃ: تفویض، ہائی کمشن High commission۔ مُنْتَدَب: قائم مقام، جسے نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہو، جسے مختار بنایا گیا ہو، جسے کوئی کام سونپا گیا ہو، جسے مقرر کیا گیا ہو تعینات کیا گیا ہو۔ دولۃٌ مُنْتَدِبَۃ: انتدابی طاقت۔

ندح: ۱- نَدَحَ ـَ نَدْحًا الشیءَ: کو چوڑا کرنا، وسیع کرنا۔ نادَحَ ہٗ: سے تعداد میں بڑھنا، سے شمار میں زیادہ ہونا، سے مقدار یا تعداد میں ہمسری کرنا، مقابلہ کرنا، کا مقدار یا تعداد میں مدمقابل ہونا۔ تَنَدَّحَتِ الغنمُ فی مرابضها او مسارحها: بکریوں کا بیٹھنے کی جگہ یا چراگاہ میں بکھرنا اور پھیلنا، زیادہ کھانے سے پھولنا۔ اِنْتَدَحَت الغنمُ فی مرابضها او مسارحها: بکریوں کا بیٹھنے کی جگہ یا چراگاہ میں بکھرنا، پھیلنا۔ النَّدْح: دور سے نظر آنے والی چیز۔ النَّدْح و النُّدْح جمع اَنْداح: کشادگی، کثرت، پہاڑ کی چوٹی۔ ـــ و النَّدْحَۃ و النُّدْحَۃ: فراخ زمین المَنْدُوحَۃ و المُنْتَدَح: کشادگی، فراخی کہا جاتا ہے: لک عن هذا الامر مندوحۃٌ او مُنْتَدَحٌ: تم اس کام سے آزاد ہو۔ اِنَّ فی المَعارِیضِ لَمَنْدُوحَۃً عنِ الکذبِ: کنایوں میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔ لکَ مُنْتَدَحٌ فی البلاد: تمہارے لئے ملک میں وسیع و عریض راستہ ہے۔ ارضٌ مَنْدُوحَۃٌ: کشادہ زمین۔ المَنادِح: کشادہ زمینیں۔

۲- النِّدْح: بوجھ

۞ نَدَّحَ ـ تَنْدِیحًا ہ: کو پھیلانا، بڑھانا، لمبا کرنا، وسیع کرنا، کشادہ کرنا، وسعت دینا، بڑا کرنا، کا حجم بڑھانا۔ نَدْحَۃ و نُدْحَۃ: وسیع کھلی جگہ، (عمل کی) آزادی لا نُدْحَۃَ عنهٗ: یہ ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر نہ بن پڑے گی۔ یہ اٹل ہے۔ مبرم ہے اس سے بچنا ناممکن ہے۔ لا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

أجِدُ لی نَدْحَةً عن: میں ایسا کرنے پر مجبور محسوس کرتا ہوں۔ مَنْدُوحَۃ جمع مَنَادِح و مُنْتَدَح: راستہ، صورت، چارہ کار، متبادل صورت، چارہ، پسند، انتخاب، آزادی عمل۔ لامندوحةَ له عن: یہ اس کے لئے ناگزیر ہے، انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے۔ لَكَ عنه مندوحةٌ او مُنْتَدَحٌ: یہ اب تمہارا کام ہے، یہ تمہارا فرض ہے، یہ تمہارے لئے اختیاری ہے۔ لَمْ يَرَ مندوحةً مِن: پر مجبور محسوس کرنا۔

ندخ: نَدَخَ ـ نُدْخَادٌ: سے ٹکرانا، سمندری، سفر کرنے والا کہتا ہے: أنْدَخْنَا المركَبَ سَاحِلَ كَذَا: ہم نے جہاز فلاں ساحل سے ٹکرایا۔ تَنَدَّخَ الرجُلُ: بڑ ہانکنا۔ الأنْدَخ: بے وقوف، غبی، کم گو۔ المُنْدَخ: بری بات کہنے یا سننے کی پروا نہ کرنے والا۔

ندر ۱۔ نَدَرَ ـُ نَدْرًا و نُدُورًا الشیُٔ: کسی چیز سے گر کر نمایاں ہونا۔ ـــ من موضعه: جگہ سے ہٹنا، دور ہونا۔ فلانٌ مِن قومِهِ: قوم سے نکل جانا۔ ـــ ت الشجرةُ: درخت کی پتیاں نکلنا یا ہری ہونا۔ ـــ النباتُ: پودے کا پتے نکالنا۔ ـــ الشیُٔ: نایاب و نادر ہونا۔ ـــ الرَجُلُ فی فضلٍ او علمٍ: فضیلت اور علم میں آگے بڑھنا۔ ـــ الرجُلُ: مرنا۔ نَدُرَ ـُ نَدارةً الكلامُ: کلام کا فصیح ہونا۔ عمدہ ہونا، نادر الوجود ہونا۔ أنْدَرَ: نادر بات کہنا یا کرنا۔ ـــ العظمَ: ہڈی کو اپنی جگہ سے ہٹانا۔ ـــ الشیَٔ: کو گرانا۔ ساقط کرنا۔ تَنَادَرَ علينا: ہمیں عجیب عجیب باتیں بتانا۔ تَنَادُرُ الشیُٔ: چیز کو گرانا۔ إسْتَنْدَرَهُ: کو نادر جاننا۔ النادِرُ فا شاذ و مخالف قیاس ـ من الكَلِمِ: کمیاب کلام ـ ـ من الجبل: پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا حصہ۔ النادِرةُ جمع نوَادِر: نادر کا مونث۔ کہا جاتا ہے: هو نادِرةُ الزمَانِ: وہ یکتائے روزگار ہے۔ نَوَادِرُ الكلامِ: عجیب کلام، شاذ کلام، فصیح، عمدہ۔ النَدْرُ: نادر کہا جاتا ہے: شیءٌ نَدْر: نادر چیز (مصدر سے وصف ہے) النُدْرَةَ: کمیابی النـ کمیابی (کہا جاتا ہے: لایکونُ ذلك الانُدْرَةً، النَدْرَة: وہ تو بہت کم ہوگا) کان میں پایا جانے والا سونے یا چاندی کا ٹکڑا۔ النَدَرَی: نادر، کمیاب۔ لقيتهُ وفی نَدَرَی والنَدَرَی و فی النَدَرَی: میں نے اس سے گاہے یا ایک بار ملاقات کی۔

۲۔ نَدَرَ ـُ نَدْرًا و نُدُوراً الشیَٔ: کا تجربہ کرنا۔ القومُ اثرَهُ: کے پیچھے جانا۔ ـــ المالُ: مویشیوں نے سرسبز پودوں کا کھوج لگایا۔

۳۔ الأنْدُرُ جمع أنادِر: گیہوں کا کھلیان، کھلیان۔ موٹی رسی۔

○ نَدَرَ ـُ نَدْرًا و نُدُورًا: شاذ ہونا، نادر ہونا، نایاب ہونا، انوکھا ہونا، نرالا ہونا، غیر معمولی ہونا۔ نَدُرَ ـُ نَدارةً: عجیب ہونا، نرالا ہونا، انوکھا ہونا، طرفہ ہونا، مشتبہ ہونا، غیر معمولی ہونا۔ تَنَدَّرَ ب/ علی: کو مذاق کرنا، چھیڑنا، سے دل لگی کرنا۔ تَنَادَرَ: ایک دوسرے کو کہانیاں اور چٹکلے یا لطیفے سنانا۔ نَدْر: نادر، عجیب، انوکھا۔ نَدْرَة و نُدْرَة و نُدُورَة: ندرت، نادر شے، نادرہ روزگار، کمیابی، نایابی، ہلکا پن، لطافت، نَدْرَةً: شاذ و نادر، کبھی کبھی، بہت کم، کبھی کبھار، گاہے گاہے، فی الندرة: شاذ و نادر، کبھی کبھی، بہت کم، کبھی کبھار، گاہے گاہے۔ أنْدَر جمع أنَادِر: کھلیان۔ أنْدَر: زیادہ شاذ، زیادہ نادر، زیادہ نایاب، زیادہ انوکھا یا نرالا، زیادہ عجیب، عجیب تر۔ مَنْدَرَة جمع مَنَادِر: کھلیان۔ مُنَادَرَات: پر لطف، ظرافت بھرے، موضوع، پھبتیاں، لطیفے۔ تَنَدُّر: تفریح، دل لگی، مذاق چھیڑ چھاڑ، ہنسی، مذاق۔ تَنَادُر: زندہ دلانہ گپ شپ یا گپ بازی۔ نادِر: نادر، کمیاب، نایاب، شاذ، کبھی کبھار کا، عجیب، غیر معمولی، بہت عمدہ، اعلی، قیمتی، گراں بہا، انمول، سنکی، خبطی، عجیب سا شخص۔ نادِرًا: شاذ و و نادر، کبھی کبھی، بہت کم، کبھی کبھار، گاہے گاہے۔ فی النادر: شاذ و نادر، کبھی کبھی، بہت کم، کبھی کبھار، گاہے گاہے۔ نَادِرُ المثال: بے نظیر، یکتا، عدیم المثال، منفرد، بے مثال، فقید المثال۔ عُمْلَةٌ نادِرَةٌ: سکے، زر سخت، نادِرَةٌ جمع نوَادِر: ندرت، نادر شے، نادرہ، روزگار، عجیب و غریب واقعہ، نادر شاذ، لفظ، مظہر، حیرت انگیز طور پر قابل غیر معمول اوصاف کا حامل، غیر معمولی شخص، مضحکہ خیز اور عجیب کہانی، لطیفہ، ہنسی، مذاق، حادثہ، واقعہ۔ مَنْدَرَة جمع مَنَادِر: ملاقاتیوں کے استقبال کا دیوان خانہ مَنَادِر: پارٹیاں (جیسے چائے پارٹی)

س: ۱۔ نَدَسَ ـُ نَدْسًا هُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ ـــ هُ بكلمة: کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا۔ ـــ به الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا۔ ـــ ه عن الطريق: کو راستہ سے الگ کرنا، ہٹا دینا۔ ـــ الارضَ برِجْلِه: زمین پر پاؤں مارنا۔ نَادَسَ هُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ تَنَدَّسَ: گر پڑنا، پچھڑ جانا، کہا جاتا ہے ندس به الارض فتندس: اس نے اسے پچھاڑا تو وہ پچھڑ گیا۔ تَنَادَسَ القومُ: ایک دوسرے کو بھلا برا کہنا۔ دِمَاحٌ نوَادِس: آر پار ہونے والے تیر۔

۲۔ نَدَسَ ـُ نَدْسًا عليه الظنَّ: پر بدگمانی کرنا۔

۳۔ نَدِسَ ـَ نَدَسًا الغلام: لڑکے کا سمجھدار و ہوشیار ہونا۔ صفت نَدِس و نَدُس و نَدْس

الرجُلُ الاخبارَ وعَنِ الاخبارِ: خبروں کی جستجو میں رہنا۔ النَدُس (مص) ہلکی پست آواز، آہستہ آواز و جلد سننے والا۔ النَدَس: سمجھ زیرکی۔ المِنْداس من النساء: چست و چالاک عورت۔

۴۔ تَنَدَّسَ ماءُ البئر: کنویں کے پانی کا بہنا۔

۵۔ المَنْدُوسَة (ح): گبریلا۔

○ نَدَسَ ـُ نَدْسًا ہ: کو زمین پر گرانا، پچھاڑنا، کو گالیاں دینا، بدنام کرنا، رسوا کرنا، کی بدگوئی کرنا، کی ساکھ ختم کرنا۔

ندش: نَدَشَ ـِ نَدْشًا و نَدَشًا عن الشیِٔ: کو تلاش کرنا، پر غور کرنا۔ ـــ القطنَ: روئی دھننا۔

ندص: ۱۔ نَدَصَ ـُ نَدْصاً و نُدُوصًا الشیُٔ من الشیِٔ: چیز کا چیز سے نکلنا۔ ـــ الرجُلُ: جلد نکلنا۔ نَدُوصَاتُ عينُهُ: کی آنکھوں کا ابھرا ہوا ہونا۔

نَدِصَ ـَ نَدَصَات البثرةُ: پھنسی سے دبانے پر پیپ و مواد نکلنا۔ أنْدَصَ و اسْتَنْدَصَ حقَّهُ من فلان: سے اپنا حق وصول کرنا۔

۲۔ نَدَصَ ـُ نَدْصًا و نُدُوصًا علی القوم: لوگوں پر ناپسندیدہ چیز لیکر ظاہر ہونا۔ ـــ القومَ: لوگوں سے برائی کے ساتھ پیش آنا۔ امرأةٌ نَدَصَة: بے وقوف بدکلام عورت۔ ہلکی اور بے عقل عورت۔ المِنْدَاص ج مَنَادِيص: لوگوں کے پاس ناپسندیدہ چیز لے کر آنے والا اور شر کا مظاہرہ کرنے والا۔ امرأة مِنْدَاص: بے وقوف بدکلام عورت، ہلکی اور بے عقل عورت۔

ندغ: ۱۔ نَدَغَ ـَ نَدْغاهُ: کو انگلی چبھونا۔ ـــ هُ بالرمح او الكلام: کو نیزہ مارنا یا برا کہنا۔ ـــ الرجُلَ: کو غمگین کرنا۔ ـــ تهُ العقربُ: کو بچھو کا ڈسنا۔ نُدِغَ الصبیُّ: بچہ کا گدگایا جانا نَادَغَ هُ: باہم عشق بازی کرنا۔ أنْدَغَ به: کے ساتھ برے سلوک سے پیش آنا۔ النُدْغَة: ناخن کی جڑ کی سفیدی۔ المِنْدَغ: نیزہ مارنے والا، باتوں سے دکھ پہنچانے والا۔ المِنْدَغَة: ناخن کی جڑ کی سفیدی۔

۲۔ نَدَّغَ العَجِينَ: گوندھے ہوئے آٹے پر خشک آٹا ڈالنا۔

۳۔ إنْتَدَغَ: آہستہ ہنسنا، مسکرانا۔

۴۔ النَدْغ والنِدغ (ن): جنگلی، صعتر (ایک خوشبودار پتیوں کا پودا یہ پتیاں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں (wild thyme)

ندف: ۱۔ نَدَفَ ـِ نَدْفًا القطنَ: روئی تومنا یا دھننا۔ ـــ الدابةَ: جانور کو تیز ہانکنا، سختی سے ہانکنا۔ ـــ بالعُود المُزْهِر: بربط یا سارنگی بجانا۔ ـــ السماءُ بالثلج: آسمان کا برف گرانا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نداتہ جانور کا تیز گام ہونا۔ نَدَفَ نَدْفاً القطنَ: روئی دھنا، تومنا۔ انّدف بربط کی آواز کی طرف مائل ہونا۔ ــــ الدابۃ کو سختی سے ہانکنا۔ النُّدْفَۃ تھوڑا سا دودھ۔ النّداف حلاج، پونیا، دھنیا، روئی دھننے والا۔ بربط نواز۔ النِّدافۃ روئی دھننے کا پیشہ۔ النّدیف من القطن دھنی ہوئی روئی۔ المِنْدَف و المِنْدَفۃ روئی دھننے کی کمان۔

۲۔ ندف ــ ندفاً لطعام کھانا کھانا۔ اَنْدَفَ الکلبَ: کتے کو پلانا۔ النّداف بہت کھانے والا۔

۳ ندف روئی دھنا، جھاڑ النّدف اون صاف کرنے کا کنگھا۔ نُدَف جمع ندف چھلکا، گالا، اون یا روئی کا گچھا، یا گالا، اون کی کترن یا گودڑ۔ نُدْفۃ الثلج: برف کا گالا۔ ندیف و مندوف دھنی ہوئی یا تومی ہوئی روئی۔ مِنْدَف جمع مَنادِف روئی دھننے، تومنے کی کمان۔

ندل ۱۔ نَدَلَ ــ نَدْلاً الشیئَ کو جلدی سے کھینچنا یا اچک لینا، منتقل کرنا۔ ــــ بسلحہ بیٹ کرنا۔ الدلو من البئر ڈول کو کنویں سے نکالنا۔ ندِل ۔ نَدَلاً ت یدُہ کے ہاتھ کا میلا ہونا۔ تندّل و تمندل بالمندیل: رومال یا تولئے سے پونچھنا، رومال سر پر لپیٹنا۔ انتدل المال نال برداشت کرنا۔ النّدْل (مص) میل کچیل۔ النُّدُل کھانا کھلانے والے خادم۔ المَنْدَل جمع مَنادِل موزہ۔ جادو۔ المِنْدَل غبن کرنے والا، خائن۔ ــــ و المَندیل و المِندیل جمع مَنادِل رومال تولیہ۔

۳۔ مندل جمع مَنادِل خوشبودار لکڑی۔

⑤ ندل ــ ندلاً کو چھین لینا، جھپٹ لینا۔ نُدْل کمینہ، حقیر، ذلیل، خبیث۔ ــــ الغوگری، دھرمٹ، ٹھوکنے، کوٹنے کی مشین۔ نادِل جمع نُدْل ملازم جو کھانا کھلاتا ہے۔ خدمت گار۔ ضربُ المَنْدَل جادو جس میں ایک قسمت بتانے والا یا معمول شیشہ جیسی سطح کو غور سے دیکھتے ہوئے پیشین گوئی کرتا ہے۔

ندم ۱۔ ندِمَ ــ ندَمًا و ندامۃً و تندّم علی مافعل اپنے کئے پر نادم و پشیمان ہونا۔ اَنْدَمَ کو پشیمان کرنا۔ النادم جمع نادمون و نُدّام و النُّدّمان جمع ندامی و ندمان (مفرد کی طرح) م ندمانۃ و ندمی نادم ہونے والا، نادم پشیمان۔ المَندم ندامت، پشیمانی۔ المَندمۃ: باعث ندامت۔

۲۔ نادَمَ ندامًا و منادمۃً ہ علی الشراب کا شراب نوشی میں ہم نشین ہونا۔ تنادم القوم علی الشراب: شراب نوشی میں ہم نشینی کرنا۔ الندمان شراب پینے کا ساتھی، النَّدْم تیز طبیعت، دانا، زیرک۔ النّدیم و النّدیمۃ جمع نِدام و نُدماء و نُدمان: (جیسے قضیب و قُضبان) شراب پینے میں ساتھی، رفیق، ساتھی۔

۳۔ اِنْتَدَمَ الامرُ کام آسان ہونا، کہا جاتا ہے۔ خُذما اِنْتَدَمَ جو آسان ہو لے لو۔

۴۔ النّدم اثر۔

⑤ نَدِمَ ـــ نَدَمًا و ندامۃً علی پر پچھتانا، پر ہاتھ ملنا، پشیمان ہونا، متاسف ہونا۔ نادمہ: کے ساتھ پینا، کے ساتھ کھل کے شراب پینا، بلانوشی کرنا اور داد عیش دینا۔ تَنَدَّم: بمعنی ندم۔ تنادم باہم مل کر پینا، باہم بلانوشی کرنا۔ مُنادَمۃ پینے میں رفاقت، گہری دوستی۔

ندہ ۱۔ ندَہَ ـ ندْھًا الرجلُ آواز دینا۔ ــ الرجلَ کو ڈانٹنا، جھڑکنا، چلا کر نکال دینا، دھتکار دینا۔ ــ الابل: اونٹوں کو اکٹھا ہانکنا۔ النّدْھَۃ آواز۔ و النُّدْھَۃ: مویشیوں کی کثرت۔ النّوادہ جھڑکیاں، دھمکیاں۔

۲۔ اِنْتَدَہَ و اسْتَنْدَہَ الامر کام کا درست ہونا۔

⑤ نَدَہَ ـ ندْھًا ہ: کو ہانکنا، ترغیب دینا، مہمیز کرنا، کو ہانک کر لے جانا۔

ندو ۱۔ ندا یندو ندوًا الرجلُ بخشش کرنا۔ ندِی یَندی ندًی و نداوۃً و نُدُوّۃً الشیئُ: بھیگنا، گیلا ہونا، تر ہونا۔ ــ ت الارضُ زمین کو تری پہنچنا، کہا جاتا ہے: ماندیتُ بشیءٍ من فلان مجھے اس سے کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوئی۔ رمیت بصری فلم یندلی شیئٌ میں نے نگاہ ڈالی لیکن میرے لئے کوئی چیز بھی متحرک نہیں ہوئی۔ ماندِیَنی من فلان شیئٌ اکرھہ: مجھے فلاں شخص سے کوئی ناپسندیدہ گزند نہیں پہنچی۔ لم یندَ منھم نادٍ ان میں سے کوئی نہیں رہا۔ ندّی تندیۃً الشیئَ: کو تر کرنا۔ ــ الفرسَ گھوڑے کو پانی پلانا۔ گھوڑے کو دوڑا کر پسینہ سے تر کرنا۔ نادَی مُناداۃً و نِداءً النبتُ نباتات کا اگنا اور گنجان ہونا۔ اَنْدَی الشیئَ: کو تر کرنا۔ ــ الرجلُ بڑا سخی ہونا، داد و دہش والا ہونا۔ ـــــ الکلام کلام کہنے والے یا سننے والے کا بدعاقبت کے خوف سے پسینہ پسینہ ہو جانا۔ تندّی الرجلُ سخی ہونا، مہربان ہونا، سیراب ہونا کہا جاتا ہے۔ شرب حتی تندّی وہ پی پی کر سیراب ہوگیا۔ ــ المکانُ جگہ کا تر ہونا۔ اِنْتَدٰی کہا جاتا ہے: ما انتدیتُ منہ شیئًا میں نے اس سے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ النّدَی (مص) جمع اَنْداء و اَنْدِیۃ بارش، سخاوت، مہربانی، بھلائی، سبز گھاس، شبنم، چربی، تر مٹی۔ النَّدْوۃ اسم مرۃ۔ سخاوت۔ النُّدْوۃ اونٹوں کو پانی پلانے کی جگہ۔ النَّدِی و النَّدِیّ م نَدِیَۃ و نَدِیَّۃ: تر، گیلا، کہا جاتا ہے: فلان ندِی الکف و ندِیّ الکف فلاں شخص فیاض ہے۔ النّدیان تر، گیلا۔ الاَنْدٰی: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: فلان اندی من فلانٍ: فلاں فلاں سے زیادہ فیاض اور صاحب خیر ہے۔ ــ ھُو اندی صوتًا منہ اس کی آواز اس سے زیادہ جاندار اور اچھی ہے۔ التَّندِیۃ: مص ۔ تندیۃ الخیل: گھوڑوں کو چھریرے بدن والا بنانا اور دوڑ دوڑ کر ان کا پسینہ سے تر ہونا۔ المُندّی وہ جگہ جہاں گھوڑوں کو چھریرے بنانے اور پسینہ لانے کے لئے دوڑایا جاتا ہے۔ المُندِیۃ جمع مُندِیات شرمناک بات۔

۲۔ ندا یندو ندوًا القوم لوگوں کا جمع ہونا اور مجلس میں حاضر ہونا۔ ــــ القوم لوگوں کو مجلس میں جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ماینْدوھم النادی مجلس ان سب کو سما نہیں سکتی۔ نادَی مُناداۃً و نِداءً فلانًا کو مجلس میں ہم نشین بنانا، کے ساتھ مشورہ کرنا، سے مفاخرت کرنا۔ تنادَی القوم لوگوں کا مجلس میں جمع ہونا۔ اِنْتَدَی القوم لوگوں کا مجلس میں جمع ہونا۔ ــــ الرجلُ: مجلس میں حاضر ہونا۔ النَّدْوۃ مجلس، مشاورت، جماعت۔ دارُ النَّدْوۃ ہر وہ گھر یا عمارت جس سے رجوع کیا جائے اور جس میں اکٹھا ہوا جائے۔ النّادِی (فا) جمع اَنْدِیۃ و نوادٍ و جمع اَنْدِیات: مجلس، کلب (Club) النّادیۃ جمع نادیات و نوادٍ: نادی کا مونث۔ النّدِیّ مجلس۔ المُنْتدَی: مجلس۔

۳۔ ندا یندو ندوًا الرجلُ الگ ہونا، جدا ہونا۔ ــ الشیئُ: بکھرنا۔ ندِیَ یندَی ندًی ونداوۃً و نُدُوّۃً الصوتُ: آواز کا دور کی ہونا۔ نادَی مُناداۃً و نِداءً الرجلَ و بالرجل: کو پکارنا۔ ــ بسرّہٖ اپنا راز ظاہر کرنا۔ ــ الشیئُ کو دیکھنا، جاننا، کہا جاتا ہے: نادَی الطریقُ لفلانٍ و ناداہ: کو راستہ دکھائی دینا۔ پر راستہ کا ظاہر ہونا۔ تنادَی القومُ ایک دوسرے کو پکارنا۔ نَخل نادِیۃ جمع نادِیات و نوادٍ کھجور کا درخت جو پانی سے دور ہو۔ نادِیات الشیئ چیز کی ابتدائیں۔ النَّدَی جمع اَنْداء و اَنْدِیۃ انتہا، خوشبو۔ النِّداء و النُّداء پکار، آواز، کہا جاتا ہے۔ ھو ندِیُّ الصوت: اس کی آواز اچھی اور قوی ہے۔ التّنادِی (مص) یوم التّناد روز قیامت۔ النّوادی متفرق اونٹنیاں۔ گوشے، نوادی الدھر حوادث زمانہ۔

⑤ ندا ـــ ندوًا ہ: کو پکارنا، مدعو کرنا۔ ــــ الی اجتماع یا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اجلاس طلب کرنا، منعقد کرنا ـــــ: اکٹھا ہونا جمع ہونا، منعقد ہونا ـنَدِیَ ـــ نَدًی ونَدَاوَۃً ونُدُوَۃً: تر ہونا۔ گیلا ہونا، شبنمی ہونا، نم ہونا، سیلا ہونا، مرطوب ہونا۔ شي یندی لہ الجبین: شرمناک رسوائی کی موجب بات، پریشان کن اور سخت بری بات ـنَدَّی ﮦ: کو نم کرنا، سیلا کرنا، مرطوب کرنا، تر کرنا، گیلا کرنا، شبنم سے تر کرنا، پراوس ڈالنا ـنادی ﮦ ب، علی: کو پکارنا بلانا ـــــ: چلانا چیخنا، اونچی آواز سے کہنا، چیخ اٹھنا، پکار اٹھنا ـــــ ہ/ علی: کو بلانا، بلوانا، بلا بھیجنا ـــــ ہ: سے اونچی آواز سے کہنا، کو پکارنا ـــ ب: کا تقاضا کرنا، کی دعوت دینا، کا اعلان کرنا، پرزور دینا ـنَـــــادَی: اعلان کرنا، اناؤنسر کے فرائض سرانجام دینا ـــ علی: پھیری لگا کر سامان بیچنا ـنُودِیَ بِہ رَئیسًا: اعلان کیا جانا کہ وہ صدر ہو گیا ہے ـاَنْدَی بمعنی نَدَّی نیز اَنْدَی: شریف ہونا، سخی ہونا، فیاض ہونا، عالی حوصلہ، بلند ہمت، اولوالعزم، عالی ظرف، فراخ حوصلہ یا کریم النفس ہونا ـتَنَدَّی: نم ہونا، سیلا ہونا، مرطوب ہونا، شبنم سے تر ہونا، اپنے آپ کو فیاض، دریا دل، کشادہ دل، آزاد منش، آزاد خیال، یا حریت پسند ظاہر کرنا ـتَنَـــادَی وانْتَـــدَی: اکٹھا ہونا، مجتمع ہونا، جمع ہونا، کلب بنانا۔ نَدْوَۃ: کونسل، مباحثہ کرنے والا گروہ، مطالعاتی گروہ، کلب ـدار النَـدْوَۃ: سٹی ہال (city hall) ٹاؤن ہال (Town hall)، پارلیمنٹ، ایوان نمائندگان، ایوان تائبین ـنُـدْوَۃ ونَدَاوَۃ: نمی، سیل، رطوبت، تری، گیلا پن ـنَـدًی جمع اَنْداء واَنْدِیَۃ: نمی، سیل، رطوبت، تری، گیلا پن، شبنم، اوس، تازگی، تروتازگی، سخاوت، عالی ظرفی، دریا دلی آزاد خیال ـنَدٍ ونَدْیان: نم، سیلا، مرطوب، تر ـنَدی الکف: سخی، فیاض، آزاد خیال۔ نِداء جمع ـدَاءَات: پکار، چیخ وپکار۔ واویلا، غل شور، اطلاع نامہ، حکمنامہ، عام اعلان ڈھنڈورا، منادی، اپیل، خطاب، ندائیہ حالت ندائیہ (گرامر) ـنِداء الاغـــــاثۃ: امداد کے لئے پکار، سخت خطرہ کا اشارہ۔ حرف النداء: صرف ندبہ وفجا، فجائیہ ـاَصْدَرَ نداءً بِ: کو باضابطہ اعلان جاری کرنا ـمُنَـادَاۃ: پکارنا، چیخنا، چلانا، پکار، پبلک نوٹس، اعلان، سرکاری اعلان ـبیع المناداۃ: علی الاعلان فروخت، نیلام، نیلامی ـنَادٍ جمع اَنْـدِیَۃ ونَـوَادٍ: کلب، سرکل، ایسوسی ایشن، کلب ہاؤس ـنادٍ ریاضي: اتھلیٹک کلب (جہاں ورزشیں اور کسرتیں کی جاتی ہیں) ـدارُ الـنـادِي: کلب ہاؤس (Club House) ـنُدِّیّ: تر، گیلا، سیلا، شبنم یا اوس سے تر، شبنمی، فرحت بخش، تازہ دم کرنے والا ـمُـنَادٍ: پکارنے والا، منادی، منادی کرنے والا، نقیب، نیلام کرنے والا، نیلامی بولنے والا ﮦ اناؤنسر (announcer) ـمُنْدِیَۃ جمع مُنْدِیات: شرمناک برا کام۔ توہین۔ گالی، گستاخی ـمُنْتَدًی جمع مُنْتَدَیات: اجتماع کی جگہ، اسمبلی روم، یعنی اجتماع کا کمرہ، کلب (Club)، فورم (Forum) (عوامی جلسہ گاہ، مرکز مباحثہ)

نذّ: نَـذَّ ـُ نَذِیذًا: کا رینٹ یا کھنکار نکلنا۔ پیشاب کرنا۔ النَذِیذ (مص): رینٹ، کھنکار، بلغم۔

نذر: ۱ـنَذَرَ ـِ نَذْرًا ونُذُورا: نذر ماننا، کہا جاتا ہے نذر مالَہٗ: اس نے اپنے مال کی نذر مانی ـنذر علی نفسہ لِلّٰہِ من المال کذا: اس نے اللہ تعالیٰ کیلئے اپنے اتنے مال کی نذر مانی ـــ الابُ الولدَ: باپ کا بیٹے کو کلیسا کا خام یا محافظ بنانا، عبادت کے لئے وقف کرنا، اِنْتَذَرَ علی نفسہ کذ: اپنے آپ پر کچھ واجب کرنا ـالنَـذْر (مص) جمع نُذُر: تاوان (کہا جاتا ہے قضی بالنذر: تاوان مقرر کرنا) اللہ تعالیٰ کے لئے مانی ہوئی چیز، منت، نذر ـنذر الرھبنۃ عند النصاری: خود اختیار کی ہوئی عفت، اطاعت اور غربت۔ النذیرۃ جمع نَذَائِر: نذر کے طور پر دی ہوئی چیز۔

۲ـنَذَرَ ـِ نَذْرًا ونُذُورًا الجیشُ فلانًا: لشکر کا کسی کو دیدبان بنانا ـنَذِرَ ـَ نَذْرًا بہ: کو جاننے کے بعد چوکنا ہو جانا اور اس کیلئے تیاری کرنا۔ کہا جاتا ہے نَذِرُوا بالعدو: وہ دشمن سے واقف ہو کر چوکنے ہو گئے ـاَنْذَرَ اِنْذَارًا ونَذِیرًا ونَذْرًا نُذْرًا ونُذُرًا ہ بالامر: کو کسی امر سے واقف کرنا، باخبر کرنا اور اس کے نتائج سے ڈرانا، (آخری چار مصدر غیر قیاسی ہیں) ـتَنَاذَرَ القومُ: ایک دوسرے کو برائی سے ڈرانا ـتَنَاذَرُوا العدوَّ: دشمن سے ایک دوسرے کو خوف زدہ کرنا ـالنَاذِر فا: نذر ماننے والا، کہا جاتا ہے فلانٌ نَاذِرٌ اِلَیَّ بِعَیْنِہٖ: فلاں شخص مجھے نظر سے جکڑے ہوئے ہے، آنکھ نکالے ہوئے ہے ـالنُذْرَی والنُذُر والنِذَارَۃ: ڈرانا۔ النَذِیر (مص) جمع نُذُر: اسم بمعنی اِنذار۔ ڈرانے والا، قاصد، رسول، بڑھاپا ـالنَذِیرَۃ جمع نَذَائِر: جنگجو فوج کی دیکھ بھال کرنے والی جماعت۔ ہراول دستہ، ڈرانا ـالمُنْذِر (فاعل): ڈرانے والا۔ کہا جاتا ہے: فلان مُنْذِرٌ الی بعَیْنِہٖ: فلاں شخص مجھے نظر سے جکڑے ہوئے ہے۔ آنکھ نکالے ہوئے ہے ـابُو المُنْذِر: مرغ ـابنُ المُنذِر: حیرہ کے ایک بادشاہ کی کنیت جس کا نام نعمان تھا ـالمَنَاذِرَۃ: حیرہ کے بادشاہ ... نَذَرَ ـِ نَذْرًا ونُذُورا ہ للّٰہ: اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز وقف کرنا، نذر کرنا۔ مخصوص کرنا ـنذرتُ للّٰہ ان: میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ـنذر ہ علی نفسہ: کا اپنے آپ سے عہد کرنا ـنَذِرَ ـــ نَذَرًا ب: سے چوکس، چوکنا، ہوشیار ہونا ـاَنْذَرَہٗ ب: کو سے متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا ـــــ ہ: کو سرزنش کرنا، سمجھانا، نشیب وفراز دکھانا ـــــ ہ ب: کو کی اطلاع کرنا، کو کا نوٹس دینا، کو سے خبردار کرنا: کو کا پیشگی نوٹس دینا کو کی پیشگی اطلاع دینا ـانذرہ بتسلیم منزلہ: کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دینا۔

نَذْر جمع نُذُور ونُذُورَات: عہد، منت، نذر ـنَذِیر جمع نُذُر: اللہ تعالیٰ کے لئے وقف، مخصوص یا نذر کیا ہوا، عہد کردہ۔ آگاہ کرنے والا، قاصد پیام رساں، خبر دینے والا، ہرکارہ، نقیب، آگے آنے والا، مستقبل کی نشاندہی کرنے والا۔ تنبیہ، انتباہ، خطرے کی اطلاع، خطرے کی گھنٹی ـنذیر الخطر: ہوائی حملہ کی اطلاع ـاِنْذَار جمع انـذارات انتباہ، اعلان، نوٹس، ملامت، فہمائش، شرم دلانا، ہوائی حملہ کی اطلاع۔ خطرے کی گھنٹی۔ اِنذارٌ بوقوعِ غاراتِ جوّیہ یا انذارٌ لِلأخطارِ الجوّیۃ: ہوائی حملہ کی اطلاع (Air Raid Warning) ـانذارٌ نِھائیٌ: آخری بات (Ultimatum) ـصَفَّارَۃُ الإنْذَار: خطرے کا گھگھو (Warning Siren) خطرے کا سائرن ـنَاذِر: نذر ماننے والا، منت ماننے والا ـمَنْذُور: عہد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے لئے وقف شدہ، نذر کیا ہوا، مخصوص کیا ہوا ـمُنْذِر: خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا، آگاہ کرنے والا ـمُنْذِرَۃ: خطرہ کا سگنل، خطرہ کا الارم۔ (Alarm- signal) ـمنذرۃ ب: کے خلاف خطرہ کی علامت۔

نذع: نَذَعَ ـَ نَذْعًا الماءُ او العَرَقُ: پانی یا پسینہ کا نکلنا۔ النِذْعَۃ: پانی وغیرہ کا قطرہ۔

نذل: نَذُلَ ـــ نَذَالَۃً ونُذُولَۃً: خسیس وحقیر ہونا، دین وحسب میں گرا ہوا ہونا صفت نَذْل جمع اَنْذَال ونُذُول ونَذِیل جمع نُذَلاء ونِذَال

نَذْل جمع اَنْذَال ونُذُول: کمینہ، ذلیل، پست، بازاری، خبیث، پاجی، سفلہ، فرومایہ، نظروں سے گرا ہوا، بگڑا ہوا ـنَذِیل جمع نُذَلاء ونِذَال: ذلیل، کمینہ، پست، بازاری، خبیث، بزدل ـنَذَالَۃ: بدچلنی، بگاڑ، فسق وفجور، سیاہ کاری۔

نرج: ۱ـالنَرْبَیج او النَرْبیش: مہنال۔ ۲ـالنَرْجِس والنِرْجِس واحدہ جسۃ (ن): نرگس۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۳۔النارجیل والنارَجیل: واحدنارَجیلة: ناریل۔
النارَجیلة حقہ۔عوام اسنارُکیلَة کہتے ہیں۔

نَرد: النَرْد: کھجور کے پتوں کا تھیلا جو نیچے کی جانب سے چوڑا ہوتا ہے۔تختہ نرد، چوسر کا کھیل جو دہری بساط پر کھیلا جاتا ہے، چوسر کی طرح کا کھیل، نرد بازی۔
النَرْدِین والنارَدِین (ن): سنبل رومی۔

نرن النَرَنْج والنارَنْج (ن): کڑوالیموں۔(فارسی لفظ)

○ نـــــروج: ناروے Norway (ایک ملک کا نام)
نُرْوِیج: ناروے۔نَرْوِیجی: ناروے کا، ناروے کا باشندہ۔

نزّ ا۔نَزَّ ۔ِنزِیْزًا الظبیُ: ہرن کا دوڑنا۔ نَزًّا ونَزِیْزًا الوَتَرُ تیر پھینکتے وقت تانت کا حرکت کرنا ـــ فلانٌ عَنِّی: (مجھ) سے دور ہونا، اکیلا ہونا۔نَزَّزَ فُلانًا عن کذا: کو سے پاک رکھنا، دور کرنا۔النَزّ والنِزّ: ایک جگہ نہ ٹکنے والا۔خوش طبع، تیز فہم۔النَزَّة: نَزَّ کا اسم مرة۔نَاقَةٌ نَزَّةٌ: سبک اونٹنی۔النَزّاز: فَعّال مبالغہ کے لئے۔النَزِیْز (مص): خوش طبع۔سبک، بہت متحرک۔المِنَزّ: بہت حرکت کرنے والا۔نچلا نہ بیٹھنے والا۔

۲۔نَزَّ ـِ نَزًّا ونَزِیْزًا وأَنَزَّ المکانُ: بہت چشموں والی جگہ ہونا۔النِزّ جمع نُزُوز: زمین سے پھوٹ کر نکلنے والا پانی۔النَزّ جمع نُزُوز: زمین سے پھوٹ کر نکلنے والا پانی، کہا جاتا ہے۔مکانٌ نَزّ: جگہ جہاں پانی پھوٹ کر زمین سے نکلتا ہو۔ارضٌ نَزَّة: زمین جہاں پانی پھوٹ کر نکلتا ہو۔

۳۔نَزَّ ـِ نَزِیْزًا الظبیُ: ہرن کا آواز نکالنا۔

۴۔نَزَّزَت الظبیةُ وَلَدَھَا: ہرنی کا اپنے بچے کی پرورش کرنا۔المِنَزّ: گہوارہ، کہا جاتا ہے۔الصبی فی المِنَزّ: بچہ گہوارہ میں ہے۔

۵۔نازَّ مُنازَّةً ہُ: کا فخر میں مقابلہ کرنا۔أَنَزَّ الشیءُ: چیز کا سخت ہونا۔کہا جاتا ہے۔رجُلٌ نِزٌّ شرٍ: برائی کی طرف میلان رکھنے والا آدمی۔النَزَّة: شدید خواہش، النِزاز: جھگڑا، مقابلہ، دشمنی کی شدت، کہا جاتا ہے: ھو نِزازُ شرٍ: برائی سے باز نہ آنے والا ہے۔النَزِیْز: شہوت پرست کہا جاتا ہے۔ھو نَزِیْزُ شرٍّ: وہ برائی سے باز نہ آتا ہے۔

۶۔نَزنَزَ الرجُلُ: سر کو ہلانا ـــ ت الامُ صَبِیَّھا: ماں کا بچے کو کودانا، نچانا۔

○ نَزَّ ـِ نَزًّا ونَزِیْزًا: رسنا، ٹپکنا، نکلنا، چونا، مرتعش ہونا۔نَزّ، نِزّ ونُزَازَة جمع نُزُوز: رسنا، سیم، رسنے والا پانی۔نَزّ: سبک، تیز، پھرتیلا، زندہ دل، شگفتہ مزاج، خوش طبع، چست، تغیر پذیر، متلون، بے ثبات، ڈانواڈول، ناپائیدار۔نَزَّة: (حسی) جذبہ، نفسانی خواہش۔نزیز: تغیر پذیر، متلون، ڈانواں ڈول، بے ثبات، ناپائیدار، بدلتا رہنے والا، حسی، پرجوش، گرم مزاج، تندخو، غصیلا۔

نزأ: ا۔نَزَأَ ـَ نَزْأً ونُزُوءًا بین القوم: قوم کو بھڑکانا، قوم میں فساد ڈالنا ـــ نَزْأً علی فلانٍ: پر حملہ کرنا ـــ فلانًا علیہ: کو کے برخلاف اکسانا۔ ہُ عن کذا: کو سے روکنا۔

۲۔نَزِیَٔ بکذا: کا شوقین ہونا، پر فریفتہ ہونا صفت۔مَنْزُوءٌ بہ، رجُلٌ نَزّاء: بہت شیفتہ، فریفتہ۔

۳۔النَزِی: چھوٹی مشک۔

نَزَب: نَزَبَ ـِ نَزْبًا ونُزابًا ونَزِیْبًا الظُبی: ہرن کا آواز نکالنا۔تَنازَبُوا بالالقاب: ایک دوسرے کو برے لقب دینا۔النَزَب جمع نزاب: لقب۔النَیْزَب (ح): نر ہرن، بیل۔

نزج: نَزَجَ ـُ نَزْجًا الغلامُ: لڑکے کا ناچنا۔

نَزح: نَزَحَ ـَ نَزْحًا ونُزُوحًا: دور ہونا ـــ نَزْحَات البئرُ: کنویں کا پانی بہت کم ہو جانا، یا بالکل ختم ہو جانا۔صفت۔نازِح ونَزُوح ونُزُح: کہا جاتا ہے بماءٍ لایَنْزَح: نہ ختم ہونے والا پانی ـــ نَزْحًا وأنزَحَ البئرَ: کنویں سے اتنا پانی نکالنا کہ بہت کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے۔القومُ: قوم کے کنووں کا پانی کم ہونا۔نُزِحَ بفلان: کے وطن سے بہت دور چلا جانا۔
إنْتَزَحَ عن دیارہ: اپنے وطن سے دور چلے جانا۔
تَنازَحَ: دور ہونا۔النازِح والنَزُوح والنَزِیح: دور۔النَزَح جمع أنزاح: گدلا پانی، وہ کنواں جس کا اکثر پانی نکال لیا گیا ہو یا پانی اس میں بالکل نہ ہو۔المُنتَزَح: دُوری۔کہا جاتا ہے ھو بمُنتَزَحٍ من کذا: وہ اس سے دوری پر ہے۔المِنزَحة جمع مَنازِح: ڈول۔قوم مَنازِیح: اپنے وطنوں سے دور گئے ہوئے لوگ۔

○ نَزَحَ ـَ نَزْحًا ونُزُوحا: بہت دور ہونا، دور ہونا۔نزح من: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا ـــ عن: سے چلے جانا، رخصت ہو جانا، سے ترک وطن کر کے دوسرے دیس جا بسنا ـــ اِلی: (کسی دیس) میں آبسنا، میں اپنا وطن ترک کر کے بسنا ـــ: ادھر ادھر پھرنا، آوارہ گردی کرنا، خانہ بدوشوں کی طرح مارا مارا پھرنا، بھٹکنا، دیس چھوڑنا، ترک وطن کرنا، بھٹکتے پھرنا۔نُزِحَ بہ: ترک وطن کر کے دوسرے دیس میں جا بسنا، وطن سے دور ہونا، پردیس میں رہنا ـــ نزحًا وأنزَحَ ہ: کو خالی کرنا، کو نکالنا، کنواں، خندق، وغیرہ، کو خشک کرنا، کا پانی نکالنا۔اِنتَزَح: ترک وطن کر کے دوسرے دیس میں جا بسنا۔نُزُوح: ترک وطن کر کے جانا، جا بسنا۔نازِح: گھر سے یا وطن سے دور جانے والا، دوسرے ملک کی طرف جانے والا، دور افتادہ ساحلوں کی طرف جانے والا، تارک وطن، ترک وطن کرنے والا، پانی نکالنے والا، کنواں یا خندق وغیرہ خشک کرنے والا، بیت الخلا صاف کرنے والا۔

نزر: ا۔نَزَرَ ـُ نَزْرًا ہُ: سے سوال کرنے میں اصرار کرنا (کہا جاتا ہے۔فلان لایُعطی حتّی یُنْزَر: فلاں شخص اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اس سے مانگنے میں اصرار نہ کیا جائے یا مانگنے والا، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے) پر زور دینا۔فلانًا: کو حکم دینا، سے جو کچھ اس کے پاس ہے تھوڑا تھوڑا نکالنا، کو حقیر جاننا۔الشیءَ: کو کم سمجھنا۔نَزُرَ ـُ نَزْرًا ونُزُورَةً و نَزارًا ونَزارَةً ونُزُرَةً: کم ہونا۔نَزارَةَ الرجُلُ: بے خیر ہونا ـــ ت الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔نَزَّرَ وأنزَرَ العطاءَ: عطیہ تھوڑا دینا۔تَنَزَّرَ الشیءُ: کم ہونا ـــ من الشیء: سے گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا۔النَزْر: بہت کم۔رجُلٌ نَزْرٌ: بے خیر شخص کہا جاتا ہے۔ماجئتَ الانَزْرًا: تم بہت آہستہ آئے۔النَزِرَة جمع نزور من النساء: تھوڑی اولاد یا کم دودھ والی عورت۔النَزُور جمع نُزُر: کم گو، تھوڑی چیز ـــ من النِساء: تھوڑی اولاد یا کم دودھ والی عورت۔النَزِیر جمع نُزُر: بہت کم۔المَنْزُور: بہت کم، کہا جاتا ہے: أعطاہُ عطاءً مَنزُورًا: اس نے اسے اتنا ہی دیا جس پر اصرار کیا گیا تھا۔و ـــ عطاءً غیر منزور: یعنی اصرار سے زیادہ دیا۔

۲۔نَزَرَ ـُ نَزْرًا الشرابُ فلانًا: کو شراب کا مست کر دینا۔

۳۔النَزُر: اونٹنی کے تھن میں ورم (سوج، سوجن)۔

○ نَزْر و نَزِیر: تھوڑا، کم، حقیر، غیر اہم، معمولی، ادنی، ذرا سا، قلیل، تھوڑا سا، تھوڑی مقدار، غیر اہم تعداد، نظر انداز کرنے کے لائق حصہ۔نَزْرُ الحدیث: کم گو، کم سخن، چند لفظی، نزر قلیل: تھوڑی سی مقدار۔

نزع: نَزَعَ ـِ نَزْعًا الشیءَ مِن مکانِهِ: کو اس کی جگہ سے اکھیڑنا۔عام لوگ نَزَعَ الشیء: سے چیز کو نظر انداز کرنے اور خراب کرنے کے معنی میں لیتے ہیں ـــ الامیرُ العاملَ: کارکن کو معزول کرنا ـــ بالسھم: تیر پھینکنا ـــ فی القوس: کمان کھینچنا ـــ عن القوس: کمان سے پھینکنا ـــ الدلوَ وبالدلو: ڈول کھینچنا یا نکالنا۔ ڈول کے ذریعے پانی نکالنا۔یکَہٗ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہاتھ کو گریبان سے نکالنا۔ — ت الشمسُ: سورج کا مغرب کی طرف جھکنا۔ — المریضُ: مریض کا قریب المرگ ہونا۔ — نزُوعًا عن کذا: سے رکنا، باز رہنا۔ — الولدُ اَبا ہ و إلی ابیہ: بیٹے کا باپ کے مشابہ ہونا۔ — نَزْعًا معنیً جیّدًا: اچھے معنی کا انتخاب کرنا۔ نِزاعًا إلی الشیٔ: کی طرف جانا۔ بفلان إلی کذا: کو کی طرف بلانا۔ — نِزاعًا ونزُوعًا إلی اھلہ: اپنے اہل کا مشتاق ہونا۔ نزِعَ - نَزَعًا: کنپٹیوں سے گنجا ہونا صفت۔ انزَع م نزْعاء: (یا زعاء کے بجائے زَعراء کہا جاتا ہے)۔ نَزَّعَ الشیَٔ من مکانہ: کو اس کی جگہ سے اکھیڑنا۔ نازَعَ نِزاعًا المریضُ: مریض کا قریب المرگ ہونا۔ — بزاعًا ومُنازعةً الی اھلہ: اپنے اہل کا مشتاق ہونا۔ — ہُ: سے جھگڑنا۔ — ہُ الثوبَ: سے کپڑا پکڑ کر کھینچنا۔ کہا جاتا ہے: ارضی تنازع ارضکم: میری زمین تمہاری زمین سے متصل ہے۔ — الکأسَ: پیالہ دینا۔ فلانا: سے مصافحہ کرنا۔ انزَعَ الرجُلُ: تنگی کنپٹیوں والا ہونا۔ تنَزَّعَ الیہ: کی طرف دوڑ کر جانا۔ تنازَعَ القوم: باہم اختلاف کرنا۔ — القوم الشیٔ: چیز کو اپنی اپنی طرف کھینچنا۔ — القومُ فی الشیء: کے بارے میں جھگڑنا۔ تنازَعُو الکأسَ: پیالہ ایک دوسرے سے لینا۔ اِنتَزَعَ الشیُٔ: چیز کا اکھڑنا۔ — الشیٔ: چیز کو اکھیڑنا۔ — سے باز رہنا، رکنا۔ — بالشِعْرِ او الآیة: شعر یا آیت کی مثال لانا۔ کوئی آیت کے عمدہ معنے پیش کرے تو کہتے ہیں: انتزع معنی جدیدا، اِستَنزَعَ ہُ عن الشیٔ: سے چیز سے رک جانے کی درخواست کرنا، کہا جاتا ہے: رآہُ مُکبًّا علی الشرّ فاستنزعہ: اس نے اسے برے کام میں مشغول دیکھ کر اس سے اس سے رک جانے کے لئے کہا۔

النازِع (فا) جمع نزَعة ونزَّع ونزّاع م نازِعَة جمع نوَازِع ونازِعَات: مُسافر، وطن سے دور۔ النزْع ونزْع الحیاة: قریب المرگ بیمار کی کیفیت، حالت نزع۔ کہا جاتا ہے: لہُ نزْعَة إلی کذا: اس کا فلاں کی طرف رجحان ہے۔ النزَعَة: پہاڑی راستہ، نازع کی جمع، تیر پھینکنے والے۔ عاد السہم إلی النزَعة: حق حقدار کو مل گیا۔ جمع نزَعات: کنپٹیوں پر بال جھڑنے کی جگہ، یہ دو ہوتی ہیں اور انہیں نزَعتان کہا جاتا ہے۔ النِزَاع والمُنازَعَة: جھگڑا، بیمار کی حالت نزع۔ النُزاعَة: ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینکی ہوئی چیز۔ النزَاعَة: جھگڑا۔ الأنزَع م نزْعاء: کنپٹیوں سے گنجا۔ النزْعاء من الجِباہ: کنپٹیوں سے گنجی عورت۔

النزُوع جمع نزُع ونِزاع: وطن کا مشتاق۔ بئرٌ نزُوع: کم گہرا کنواں۔ فلاة نزُوع: دور کا صحراء۔ النزِیع جمع نزّاع: وطن کا مشتاق۔ مسافر، اجنبی، دور (مکانٌ نزِیع: دور کی جگہ) کم گہرا کنواں، شریف۔ (کہا جاتا ہے: فرسٌ نزِیع: اچھی نسل کا گھوڑا) لونڈی کا بچہ۔ — م نزِیعَة جمع نزائِع اکھڑا ہوا۔ ثمرٌ نزِیعٌ: چنا ہوا پھل۔ نُزّاع القبائِل: قبیلوں کے پڑوس میں رہنے والے اجنبی لوگ۔ النزِیعَة جمع نزائِع: وطن کی مشتاق (عورت)۔ — من النساء: وہ عورت جس کی شادی دوسری قوم میں کی گئی ہو۔ — من النجَائِب: دوسرے ملک میں لے جائی گئی اصیل اونٹنیاں۔ النزَائِع: چوپائی ہوا۔ — من الابل والخیل: مسافروں سے چھینے ہوئے اونٹ یا گھوڑے۔ المِنزَع (دور پھینکا ہوا) تیر، سختی سے اکھیڑنے والا۔ المنزَع: جمع منازِع: مرغوب ہدف، ارادہ۔ المِنزَعة: شہد اٹھانے کی چوڑی لکڑی۔ جھگڑا۔ المنزَعة والمنزِعَة: رائے، معاملہ، تدبیر، ہمت کہا جاتا ہے: فلانٌ بعید المنزعة: فلاں شخص بڑا ہمت والا ہے۔ شرابٌ طیّبُ المنزعة: لذیذ شراب۔ الولدُ المنزُوع: بگڑے ہوئے اخلاق اور بری تربیت والا لڑکا (عام زبان میں)۔

○ نزَعَ ـِ نزْعًا ہ: کو اکھیڑنا، کو زور لگا کر نکالنا، نکالنا۔ — ہ عن: کو سے ہٹانا، دور لیجانا، اکھاڑنا۔ کو سے قلمزن کرنا۔ — ہ: کپڑے اتارنا۔ — عن / من ہ: کو سے محروم کرنا، کی کوئی چیز لوٹنا، کے کپڑے وغیرہ اتار لینا، — ہ من: کو سے چھین لینا۔ — ہ: کو معزول کرنا، برخاست کرنا، کا مرتبہ کم کرنا۔ — ب: کو بطور ثبوت یا تردید یا تغلیط میں پیش کرنا۔ — إلی: کی طرف جانا، ترک وطن کر کے کسی ملک میں جا بسنا۔ — نزُوعا الی: کی خواہش یا تمنا ہونا، کی سخت آرزو ہونا، کا آرزو مند ہونا، متمنی ہونا، کی تمنا رکھنا، کی تمنا ظاہر کرنا، کی طرف مائل ہونا، کا رجحان رکھنا، کو اختیار کرنا، کو لینا، کا ذمہ لینا، کو اپنے سر لینا، سے رجوع کرنا۔ — عن: سے غیر حاضر ہونا، سے تجاوز کرنا، انحراف کرنا، سے رکنا، باز رہنا، سے بچنا، کو چھوڑ دینا، سے الگ رہنا، پرہیز کرنا، — : حالت نزع میں ہونا، نزع منہ نازع إلی: کی خواہش محسوس کرنا، کی طرف رجحان معلوم کرنا یا دریافت کرنا۔ نزّعَ ہ: کو دور کرنا، لیجانا۔ نازَعَ ہ: سے لڑنا، جھگڑنا، جھگڑا کرنا، کا مقابلہ کرنا، سے مسابقت کی سعی کرنا۔ — : سے لڑنا، جھگڑنا، کا مقابلہ کرنا، کی سعی کرنا، کی جدوجہد کرنا، کو لڑنا، کا ثبوت

marfat.com

چاہنا، پر اعتراض کرنا۔ — ہ ہ: سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرنا، پر کسی کے حق کے خلاف دلیل لانا یا پیش کرنا۔ — : نزع کی حالت میں ہونا۔ تنازع: ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، مسابقت کی سعی کرنا۔ — ہ: کے لئے حریف ہونا، رقیب ہونا، پر ایک دوسرے کے حق کے خلاف دلیل لانا یا پیش کرنا، پر جھگڑا جاری رکھنا، پر مختلف الرائے ہونا، اختلاف کرنا۔ اِنتزَعَ ہ من: سے کو اکھیڑنا، سے کو نکالنا، سے کچھ پھاڑنا، چیرنا۔ — من ہ: سے کوئی چیز چھیننا، سے کوئی چیز اکھیڑنا، پھاڑنا۔ — ہ: کو لینا، لے جانا، کھینچنا، ادھار لینا، عاریۃً لینا۔ نزَع: ہٹانا، پیچھے ہٹنا، نکال دینا، اخراج، معزولی، عہدہ سے برخاستگی، موت کی کشمکش، موت کی اذیت، نزع السلاح: تخفیف اسلحہ، نہتہ کرنا، مؤتمر نزع السلاح: تخفیف اسلحہ کی کانفرنس۔ نزعِ الملکیة: بے دخلی، جائیداد غصب کرنا۔ نزْعَة جمع نزَعات: رجحان، رغبت، میلان، وضع، رویہ، انداز نظر، نقطہ نگاہ، موقف، اپوزیشن۔ نزُوع إلی: کے لئے کوشش، جانفشانی، دوڑ دھوپ، جدوجہد، چاہ، تمنا، آرزو، اشتیاق، کی طرف رجحان، جھکاؤ، میلان طبع۔ نزّاع إلی: کی طرف جھکاؤ، کا رجحان، کی طرف میلان طبع رکھنے والا۔ نزِیع جمع نزّاع: غیر ملکی، پردیسی، اجنبی، نووارد۔ منزَع جمع منازِع: نیت، مراد، غرض، مطلب، عزم، مقصد، منشا، قصد، ارادہ، دھیان، اشتیاق، مدعا، مطمح نظر، طریقہ، راستہ، طرز، ڈھنگ، انداز، طور طریقہ، لچھن، چال چلن، مِنزَع: تیر۔ نِزاع: لڑائی، جدوجہد، نزاع، جھگڑا، مقابلہ، مناقشہ، قضیہ، بحث، موت کی کشمکش، موت کی اذیت۔ بلانِزاع: مسلمہ طور پر، حتمی طور پر، یقینی طور پر، ناقابل تردید طور پر، بے شک، بلاشبہ، یقینا، ناقابل انکار طور پر۔ علیہ نِزاع: قابل بحث، مابہ النزاع، متنازع، لانزاعَ فیہ: جس میں مخالفت نہ، جس کی تردید نہ کی گئی ہو، مانا ہوا، آشکارا۔ مُنازَعَة جمع مُنازَعات: لڑائی، جدوجہد، جھگڑا، فساد، تنازعہ، بحث، مناقشہ، تکرار، نزاع، ان بن، نااتفاقی، ناچاقی، اختلاف، نزاعی معاملہ، امر متنازع (عدالت میں) اصل معاملہ جس پر اختلاف ہو (Case at issue) نازِعة جمع نوازِع: رجحان، میلان، جھکاؤ۔ منزُوع: ہٹایا ہو، دور کیا ہوا۔ مِنطقة منزُوعَة السلاح: علاقہ جہاں سے فوج نکال لی گئی ہو۔ مُنازِع: موت کے ساتھ جدوجہد کرنے والا، حالت نزع میں، مقابلہ کرنے والا، جدوجہد کرنے والا، لڑنے والا، جنگجو، جھگڑالو،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مخاصم، مقدمہ باز، لَيْسَ مِن مُنَازِعٍ فِي: کوئی انکار نہیں کرے گا کہ..... مُنَازَعٌ عليه: قابل بحث متنازعہ۔ مُتَنَازِعٌ: باہم دگر آویزاں، متصادم۔ مُتَنَازَعٌ عليه و مُتَنَازَعٌ فيه: متنازعہ، قابل بحث، متنازعہ فیہ معاملہ۔ مُنْتَزَعٌ مِن: سے لیا ہوا، نکالا ہوا۔

ـ ـ غ: نزغ ـ نَزْغَاهُ: کو ہاتھ سے ٹھونکا لگانا یا نیزہ مارنا، کو خفیف سی حرکت دینا، پر عیب لگانا، ـــــ هُ بكلمةٍ: کو طعن و تشنیع کرنا۔ ـــــ بين القوم: لوگوں میں فساد ڈالنا، کہا جاتا ہے۔ نَزَغَ الشيطانُ بينهم: شیطان نے انہیں ایک دوسرے کے برخلاف اکسایا۔ نَزَغَهُ الشيطان إلى المعاصي: شیطان نے اسے گناہوں پر اکسایا۔ النازغة جمع نَوَازِغ: نَازِغ کا مونث۔ النَوازِغ: فساد ڈالنے والیاں۔ النَزْغ (مص): اکسانے والا کلام۔ ـــ زَغُ الشيطان: شیطانی وسوسے، گناہوں پر مجبور کرنے والے ہتھکنڈے۔ النَزْغَة جمع نَزَغَات: نزغ کا اسم مرة، طعن و تشنیع۔ النَزَّاغ و المِنْزَغ و المِنْزَغَة: غیبت کرنے والا، فساد ڈالنے والا۔ النَزِيغة: برا کلمہ۔

نُزُغٌ و نُزُغَةٌ جمع نُزَغَات: گناہوں کی ترغیب۔ نُزُغ الشيطان: شیطان کے وسوسے۔ شیطانی القاء و الہامات

نـزف: نَزَفَ ـِ نَزْفًا ماءَ البئرِ: کنویں کا سارا پانی نکال دینا۔ ـــ ت البئرُ: کنویں کا سارا پانی نکالا جانا۔ ـــ دمَ فلانٍ: کا خون پچھنوں یا فصد سے نکالنا۔ ـــ عبرتَهُ: کے آنسو ختم کر دینا۔ ـــ الدمُ فلانًا: زیادہ خون نکلنے سے کمزور ہو جانا۔

نَزِفَ ـَ نَزَفَات عبرتُهُ: کے آنسو خشک ہونا۔ نُزِفَ ماءُ البئرِ: کنویں کا سارا پانی نکالا جانا۔ ـــ الرجلُ: بے عقل ہونا یا بدمست ہونا۔ ـــ الرجلُ دمًا: نکسیر پھوٹنے سے سارا خون نکل جانا۔ ـــ في الخصومة: جھگڑے میں کی حجت ختم ہونا۔ أَنْزَفَ البئرَ: کنویں کا سارا پانی نکال دینا۔ ـــ الرجلُ: کے لئے کچھ نہ بچنا، مست ہو جانا، کی عقل جاتی رہنا، کی جھگڑے میں حجت ختم ہو جانا۔ ـــ العبرات: آنسو روک دینا، ختم کر دینا۔ ـــ ت البئرُ: کنویں کا سارا پانی نکالا جانا۔ إِسْتَنْزَفَ الدمعَ او الماءَ: آنسو یا پانی خشک کرنا یا نکال لینا۔ النازِف جمع نُزَّف: فا عِرْقٌ نَازِفٌ: رگ جس سے خون نہ بہتا ہو۔ النَزْف (مص)، نزفُ الدم: خون کا بہنا۔ النُزُوف: کنویں کا پانی نکالنا، بہت سا خون نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری۔ النُزْفَة جمع نُزَف: تھوڑا پانی وغیرہ۔ نَزَافِ: اسم فعل بمعنی امر کہا جاتا ہے نَزَافِ ماءَ البئرِ: کنویں کا سارا پانی نکال دے۔ النَزُوف: کنواں جس کا سارا پانی ہاتھ سے نکال دیا گیا ہو۔ النَزِيف: بافراط خون نکل جانے کی وجہ سے کمزور، پیاس سے خشک رگوں اور زبان والا، بدمست، بخار میں مبتلا۔ بئرٌ نَزِيف: تھوڑے پانی والا کنواں۔ المِنْزَفَة: جس سے پانی نکالا جائے۔ المَنْزُوف: زیادہ خون نکلنے سے کمزور، پیاس سے خشک رگوں اور زبان والا، بے عقل۔

نَزَفَ ـِ نَزْفًا هـ: کو خشک کرنا، خالی کر دینا، کو کھینچ لینا، کل خرچ کر ڈالنا، کمزور کرنا، هـ: کنواں خشک کرنا، خون نکال دینا۔ ـــ: خشک ہونا، خالی ہونا، خرچ ہونا۔ نُزِفَ دمُهُ: کا بہت خون ضائع ہو جانا، کا خون نکلنا، خون نکلنے سے مر جانا۔ أَنْزَفَ هـ: کنویں کا پانی نکالنا، کو خالی کرنا۔ ـــ: خالی ہونا، خرچ ہو جانا، کمزور ہونا۔ إِسْتَنْزَفَ هـ من: کو سے خالی کرنا، کھینچ لینا، لینا۔ ـــ هـ: کو خالی کرنا، خرچ کرنا، ختم کرنا، نگلنا، ہڑپ کر جانا، کھا جانا، سارا استعمال کر لینا۔ نَزْف خالی کرنا، سخت تھکاوٹ، خون کا بہنا، جریان خون، خون کا ضائع جانا۔ النزف الدموي: جریان خون۔ نُزْفَة: تھوڑی مقدار (سیال شے کی) قلیل مقدار۔ نَزِيف: خون ضائع ہونے کی وجہ سے، کمزور، خون نکلنا، بہنا جریان خون۔ مَنْزُوف: خون ضائع ہونے کی وجہ سے کمزور۔

نزق: ۱۔ نَزَقَ ـِ نَزْقًا و نُزُوقًا الفرسُ: گھوڑے کا کودا اور اچھل کر تیزی سے آگے بڑھنا۔ نَزِقَ ـَ نَزَقًا و نُزُوقًا الفرسُ: گھوڑے کا کودا اور اچھل کر تیزی سے آگے بڑھنا۔ ـــ نَزَقًا و نُزُوقًا الرجلُ: غصہ سے طیش میں آنا اور خفیف الفعل ہونا۔ صفت نَزِق م نَزِقَة: نَزَّقَ الفرسَ: گھوڑے کو مار کر کدانا۔ نَازَقَ نِزَاقًا و مُنَازَقَةً هُ: کے قریب ہونا، کو گالی دینا۔ أَنْزَقَ الفرسَ: گھوڑے کو مار کر کدانا۔ ـــ فلانٌ: کم عقل ہو جانا۔ ـــ النعيمُ فلانًا: کو تنگی ہونے پر اکسانا۔ ـــ الرجلُ في الضحك: بہت ہنسنا۔ تَنَازَقَا: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ النزق (مص): پھرتی، حماقت اور جہالت سے جلد بازی۔ مكانٌ نَزَق: نزدیک جگہ۔ النَزْقَة: اسم مرة، دوڑ کا آغاز۔ النَزِقَة و النزاق مِن النوق: سرکش اونٹنی۔ المُنَازِق: باتونی۔

۲۔ نَزَقَ ـِ نَزْقًا الاناءَ: برتن کو لبالب بھرنا۔ نَزِقَ ـَ نَزَقًا الاناءُ: برتن کا لبالب بھرنا۔

۳۔ النَيْزَق جمع نَيَازِق: چھوٹا نیزہ۔

نَـزَقَ ـِ نَزْقًا و نَزِقَ ـَ نَزَقًا و نُزُوقًا: زور سے آگے بڑھنا۔ آگے بڑھنا، دوڑ پڑنا، ٹوٹ پڑنا، جلد بازی کرنا، سخت عجلت میں ہونا، تیز و تند ہونا، پر جوش ہونا، جلد بازی کرنا، سخت عجلت میں ہونا، تیز و تند ہونا، پر جوش ہونا، خالی دماغ، باولا یا سنکی ہونا، سبک ہونا اوچھا ہونا، بے احتیاط ہونا، ناعاقبت اندیش ہونا، سنگدل ہونا، بے رحم ہونا۔ نَـزَّقَ هـ: گھوڑے کو مہمیز کرنا، تیز دوڑانا، آگے بڑھانا۔ نَـزَق: جلدی، پھرتی، تیزی، عجلت، جلد بازی، تہور، شتابی، ناعاقبت اندیشی، جوش، شدت، سختی، بے عقلی، من چلا پن، بے احتیاطی، لاپرواہی، بے فکری، بے مروتی، ہلکا پن، سنکی، اوچھا پن۔ نَزِق: پھرتیلا، جلد باز، تیز، ناعاقبت اندیش، تند خو، تیز مزاج، زود رنج، چڑچڑا، غیر محتاط، بے دھڑک سر کے بل، سخت، عجلت میں، بے سمجھے بوجھے، تند، شدید، سخت، گرم، پر جوش، آندھی کی طرح کام کرنے والا، بے فکر، بے پروا، بے احتیاط، غافل، لاپروا، سہل انگار، توجہ نہ کرنے والا، خالی دماغ، باولا، سنکی، بے فکرا، خفیف، ہلکا، غیر سنجیدہ، بے نتیجہ باتیں کرنے والا، وحشی، کم عقل، وہمی، بے وقوف، سطحی، بہت معمولی بیہودہ۔

نزك: نَزَكَ ـَ نَزْكًا هُ: کو نیزہ مارنا، کو برا کہنا، پر عیب لگانا، ناحق الزام لگانا، النَزَّاك و النُزُك: عیب لگانے والا، النَزِيكَات: شریر لوگ۔ النَيْزَك جمع نَيَازِك: چھوٹا نیزہ۔ ـــــ جمع نَيَازِك (فلك): ٹوٹنے والا ستارہ۔ شہاب ثاقب

نزل: نَزَلَ ـِ نُزُولاً من علوٍّ إلى اسفل: اوپر سے نیچے اترنا۔ ـــ فلانٌ عن الحق: اپنا حق چھوڑ دینا۔ ـــ به: کو اتارنا۔ ـــ به الامرُ: پر واقع ہونا، آ پڑنا۔ ـــ نِزَالَةً: سفر کرنا۔ کہا جاتا ہے: مازلتُ انزل: میں سفر کر رہا ہوں۔

ـــ نُزُولاً و مَنْزَلاً و مَنْزِلاً القومَ و بالقوم و على القوم: کے ہاں مہمان اترنا۔ نَزِلَ ـَ نَزَلاً المكانُ: جگہ کا سختی کی وجہ سے تھوڑی سی بارش سے بہنے لگنا۔ ـــ الزرعُ: کھیتی کا بڑھنا۔ ـــ نَزُلَةً الرجلُ: کو زکام ہونا۔ نَزَّلَ الشيءَ مكانَ الشيءِ: کو کی جگہ رکھنا، کو کا قائم مقام کرنا۔ ـــ القومَ: لوگوں کو منازل میں اتارنا۔ ـــ هُ: کو اتارنا۔ ـــ اللّهُ كلامَهُ على انبيائه: اللہ کا اپنے نبیوں کو اپنے کلام کی وحی کرنا یا نازل کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو مرتب کرنا۔ الحاسبُ الرقمَ: رقم لکھنا۔ نَازَلَ نِزَالاً و مُنَازَلَةً هُ في الحرب: کے مقابلہ میں جنگ کے دوران اترنا اور اس سے لڑنا۔ کہا جاتا ہے حاربوا بالنزال: دونوں فریق اپنے اونٹوں سے گھوڑوں پر اتر کر آپس میں لڑے۔ أَنْزَلَ إِنْزَالاً و مُنْزَلاً الضيفَ: کو مہمان اتارنا۔ ـــ الشيءَ: کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اتارنا۔ ــــ اللّٰہُ الکلامَ: اللہ کا وحی کرنا، کہا جاتا ہے: انـزلَ حاجتـه علـى كريم: اس نے فیاض سے حاجت روائی کی درخواست کی۔ تَنَـزَّلَ ٹھہر ٹھہر کر اترنا۔ ـ عن الحق: حق چھوڑنا۔ ـ فلاناً: کو اتارنا۔ تَنَـازَلَ القومُ: اونٹوں سے اتر کر گھوڑ پر سوار ہونا اور لڑنا۔ میدان جنگ میں اتر کر مصروف پیکار ہونا۔ ــــ القومُ فی السفر: کبھی اس کے پاس کھانا کبھی اس کے پاس۔ ــــ الرجُلُ: اپنی حیثیت سے گر جانا، روادارانہ ہونا۔ اِسْتَـنْـزَلَ ہٗ: کو اتارنا، سے اترنے کو کہنا۔ ـ ہٗ عن رایه او حقه: کو اپنی رائے یا حق سے نیچے اترنے کیلئے کہنا۔ اُسْتُنْزِلَ فلانٌ: مرتبہ سے اتارا جانا۔ النَازِلَۃ جمع نَازِلات و نَوَازِل: نازل کا مونث: سخت مصیبت۔ النِـزُل (طب) زکام، کھانسی، اور بخار (عام زبان میں)۔ ــــ جمع سـزُول. جمع شدہ۔ النُـزُل جمع انْزال مہمان کا کھانا۔ ــــ و النَـزَال جمع اَنْـزَال فصل کی نمو کھیتی کی بالیدگی، داد و دہش اور فضل۔ النُزُلُ: منزل، مہمان لوگ، برکت والا کھانا۔ ــــ جمع اَنْزال: مہمان کا کھانا۔ النَزل: وہ مکان یا جگہ اکثر و بیشتر لوگ اتریں، سخت جگہ جہاں سیلاب آ جائے۔ مکانٌ نَزِل: جگہ جہاں اکثر و بیشتر اترا جائے۔ النَزَل جمع اَنْزَال: بارش۔ رجُلٌ ذو نَزَلٍ: بہت بخشش، فضل اور برکت والا۔ اَنْـزَالُ الـقـوم: قوم کی روزیاں۔ النَزْلَة جمع نَزَلَات: نزول کا اسم مرۃ۔ لقدر آہُ نَزْلَةً اُخـری: اس نے اسے دوسری بار بھی دیکھا۔ ــــ (طب): زکام، نزلہ۔ ارضٌ نَزِلَةٌ: اچھی کھیتی کی زمین کہا جاتا ہے: تر کتُهم علی نَزَلاتهم و نَزِلاتهم: میں نے انہیں اچھی حالت میں چھوڑا۔ النِزَالَة: سفر، مہمانی، کہا جاتا ہے: کـنـا فی نِزَالَةِ فلانٍ: ہم فلاں کی مہمانی میں تھے۔ فـلان من نزالةِ سُوءٍ: فلاں کا باپ کنجوس ہے۔ النُـزَالة: جگہ کا تھوڑی سی بارش سے سختی کی وجہ سے بہہ پڑنا۔ النَزَّال: بہت اترنے والا، بہت مقابلہ کرنے والا۔ النَـزِيل جمع نُـزَلاء: مہمان (کہا جاتا ہے: فـلانٌ نـزيـلـی: فلاں شخص میرے ساتھ گھر میں مہمان ہے) برکت والا کھانا۔ کہا جاتا ہے، ثوبٌ نَزِيلٌ: مکمل کپڑا۔ التَنْزِيل: ترتیب، اوپر سے نیچے اترنا۔ الـمَنزِل جمع مَـنَازِل: اترنے کی جگہ، گھر، چشمہ۔ الـمَـنـزِلَة جمع مَـنَـازِل: اترنے کی جگہ، گھر، رتبہ، کہا جاتا ہے: لـه مـنـزلة عند الامير: وہ امیر کے ہاں مرتبہ والا ہے۔ رفيـعُ الـمَـنـزِلَة: بلند مرتبہ شخص۔ الـمُـنَزَّلَة (ط): گوشت اور بینگن سے تیار کیا ہوا سالن۔ الـمَـنَزُول: مہمانوں کے لئے تیار کی ہوئی جگہ، مہمان خانہ۔

نزل ○ نَـزَلَ من ہ: ٹرین سے اترنا، کار سے اترنا، جہاز سے اترنا ـ: ہوائی جہاز کا اترنا، بارش کا برسنا، آسمان سے اترنا، خصوصا قرآن مجید کی وحی ہونا۔ قیمتوں کا گرنا، پانی کی سطح گرنا، کم ہونا، دریا وغیرہ کا اتر جانا، رکنا آرام کے لئے، پڑاؤ ڈالنا، خیمہ زن ہونا۔ ــــ ب / علی / عند: کے ہاں قیام کرنا۔ ــــ ہ: کسی جگہ رہنا، سکونت کرنا، بود و باش کرنا۔ ــــ: اکھاڑے، دنگل، میدان جنگ یا میدان عمل میں اترنا، قدم رکھنا، لڑائی شروع کرنا، مخالفت فریق کے سامنے آنا، سے مڈبھیڑ ہونا، مقابلہ کرنا۔ ــــ عن ل: کے حق میں سے دست بردار ہونا۔ ــــ عن: کو چھوڑنا، ترک کرنا، سے استعفیٰ دے دینا، سے باز رہنا، پرہیز کرنا۔ ــــ ب: پر نازل ہونا، پڑنا، ٹوٹ پڑنا، چڑھ دوڑنا (مصیبت، سزا وغیرہ کا) کو ایذا دینا، دکھ پہنچانا، تکلیف میں ڈالنا، کو پیش آنا۔ ــــ علـى: پر حملہ کرنا، کا آغاز کرنا، پر چھاپہ مارنا۔ ــــ ب إلى: کو کسی جگہ لیجانا۔ نَزِلَ ـ نَزْلَةً: زکام ہونا: نـزل إلـى البَـرّ: زمین پر اترنا، ساحل پر اترنا، نـزل الـى الميدان: لڑائی شروع کرنا۔ نـزل دون منزلته: سطح سے گر جانا، نـزل ضيـفًا علی: کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھانا، کے ہاں بطور مہمان مقیم ہونا۔ نـزل علی حـكمه: کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کی اطاعت اختیار کرنا، کی فرمانبرداری کرنا، کے حسب معیار کام کرنا۔ نزل عند ارادته: کی مرضی منشا یا ارادہ کا پاس یا لحاظ کرنا یا اسے تسلیم کرنا، کے حکم کی تعمیل کرنا۔ نـزل عـنـد رغبتـه (یا طـلـبـهِ) کی خواہش یا مطالبہ کو پورا کرنا، کی حسب خواہش کام کرنا، کے مطالبہ پر عمل کرنا۔ نزل مَنْزِلاً: جگہ یا پوزیشن پر فائز ہونا، جگہ یا پوزیشن تک پہنچنا۔ نـزل مـنـزلَه اللائقَ: اپنی جائز جگہ پر فائز ہونا، قابض ہونا۔ نـزل مـنـزلة فلان: کی پوزیشن پر لگا رہنا، کی حیثیت سے کام کرنا۔ نَـزَّلَ: اتارنا۔ ــــ ہ: کو اتارنا ــــ ہ: کو نیچے کرنا، گرانا۔ ــــ ہ علی: پیغمبر پر وحی کرنا ــــ ہ: کا انکشاف کرنا، کی وحی بھیجنا، کا الہام کرنا، کو اتارنا، کو نیچے رکھنا۔ ــــ ہ / من: کو گرانا، کم کرنا حد سے زیادہ کم کر دینا، بہت کم کر کے دکھانا، میں تخفیف کرنا، کو چھوٹا کرنا، کو گھٹانا۔ ــــ ہ: کو جھکانا، ٹیڑھا کرنا، کو ڈوبا دینا، (جھنڈا) نیچا کرنا، اتارنا۔ ــــ ہ عن: کو سے سبکدوش کرنا، برخاست کرنا الگ کر دینا، موقوف کرنا۔ ــــ ہ عن العرش: کو تخت سے اتارنا، معزول کرنا۔ ــــ ہ: کی میزبانی کرنا، کو ٹھہرانا، کے قیام کا انتظام کرنا۔ ــــ ہ من: کو سے مجرا کرنا، کم کرنا، کو سے تفریق کرنا، منفی کرنا۔ ــــ ہ فی: کو میں ڈالنا، داخل کرنا، جڑاؤ کام کرنا، کی میں منبت کاری کرنا، پچی کاری کرنا (جیسے ہاتھی دانت کی، لکڑی میں) نَزَّلَ دَرَجَتَهُ: کا منصب گھٹانا، کی تنزلی کرنا۔ نَازَلَ ہ: کے ساتھ مصروف پیکار ہونا، سے کسی مسئلہ پر بحث کرنا، سے متصادم ہونا۔ اَنْزَلَ: اتارنا۔ ــــ ہ علی: اللہ کا کسی چیز کو پر نازل کرنا، پر کسی چیز کی وحی کرنا۔ ــــ ہ: اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز عطا کرنا، دینا۔ ــ ہ ہ: کو میں اتارنا، ٹھہرانا، رکھنا، رہائش دینا۔ ــ ہ: (مال) اتارنا۔ ــ ہ إلی البر: کو جہاز سے ساحل پر لیجانا۔ ــ ہ: فوجیں زمین پر اتارنا، ساحل پر رکھنا، جہاز سے اتارنا۔ ــــ ہ: جھنڈا اتارنا۔ ــــ ہ إلی: تعداد، قیمت وغیرہ، ......تک کم کرنا۔ ــــ ب ہ: کو کا نقصان پہنچانا۔ ــــ ہ علی: کو پر مجبور کرنا۔ ماانزلَ اللّٰه به من سلطان: اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اختیار اور قوت نہیں دی (مرادی معنی): بے کار، فضول، ناکارہ، بے اثر، بے نتیجہ، لاحاصل، بے ثمر، بے فائدہ، بے بنیاد، لغو، بے سر و پا، نامعقول، بعید از قیاس، بے تکا، لچر، الٹی گنگا، مکمل طور پر من مانا، انگل پچو۔ انزل ہ الی البحر: جہاز کو پہلی مرتبہ پانی میں اتارنا۔ اَنْزَلُوهم ضَيوفًا علـيهـم: انہوں نے انہیں مہمان بنایا۔ اَنْـزَلَ بـه خسـارةً فادحة: کو بھاری نقصان پہنچانا۔ انزل ہ مـنـزلةَ فـلان: کو کی حیثیت میں فائز کرنا، کو کا مرتبہ دینا، کو کے برابر منصب دینا، تَـنَـزَّلَ إلی: تک کم ہونا، تک جھکنا، فروتنی کرنا، ــــ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا، خاکساری کرنا، اپنے آپ کو خوار کرنا، ــــ عن: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سے باز رہنا۔ تَنَازَل عن لِ: سے کے حق میں دستبردار ہونا ــ عن: سے بے نیاز رہنا، کو چھوڑ دینا۔ ــــ عن ل: کو کے حوالے کر دینا، کو پر چھوڑ دینا، کو کوئی چیز منتقل کرنا، ــــ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا، خاکساری کرنا، فروتنی کرنا تـنـازل (یـا تـنـزل) عن العرش ل: تخت سے کے حق میں دستبردار ہونا۔ تنازل عـن منصب: منصب سے مستعفی ہونا اِسْتَنْزَلَ ہ: کو اترنے کے لئے کہنا۔ ــ ہ: کی التجا کرنا۔ ــ ہ: کو اتارنا۔ ــ ہ عن: سے کو چھوڑنے کی اپیل کرنا، کو سے دستکش ہونے کی اپیل کرنا۔ ـ ہ: محصور کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ــــ ہ من: کو سے منہا کرنا، تفریق کرنا۔ نَـزُل جمع نُـزُول و نُـزُل: شب باشی کی جگہ، ہوٹل، سرائے جمع نُـزول. بدوؤں کی چھوٹی قبائلی وحدت، (خانہ بدوشوں) کا پڑاؤ، ڈیرہ۔ نُــزُل: مہمان کو دیا جانے والا کھانا۔ نَـزْلَة: رہنا، رکنا، ٹھہرنا، قیام، آمد۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نَـزْلَةُ الـحـج: مکہ معظمہ سے محمل کی واپسی کا جشن۔ نَـزْلَة: زکام۔ نـزلةٌ شـعـبية: قصبی زکام۔ نـزلة صَـدرِيَة: ورم زخرہ۔ نـزلة وَافِـدة: انفلوئنزا (Influenza) نِزَالَة: نوآبادی۔ نُزُولاً علی: کے مطابق کے پاس ادب سے۔ نزولا عـنـد رغبتـه: اس کی خواہش کی تکمیل میں، اس کی خواہش کے لحاظ میں، اس کی درخواست پر، نزولا عـنـد طلبه: اس کے مطالبے کی تعمیل میں، اس کی درخواست کے مطابق، نزول المطر بارش۔ نُزُولِي (قیمتوں اور سٹاکوں) کے گرنے کے متعلق یا سے متعلق۔ اثر بازگشت کا، گری ہوئی، ڈوبتی ہوئی نـزیـل جمع نُزَلاء: مہمان اجنبی، پردیسی، شب باش، منزل گزین، خرچ دے کر کھانا کھانے والا، مقیم، داخل، قابض، کرایہ دار، منزلُ الاستراحة: ریسٹ ہاؤس (Rest House) منازل اللَّهْوِ واللعب: تفریحی مراکز۔ اهلُ المنزل: اہل خانہ، بیوی بچے، صاحب المنزل: مالک مکان۔ منزلي گھریلو، خانگی، پرائیویٹ (نجی)، مَنزِلَة: ڈگری، گریڈ، منصب، پوزیشن، درجہ، رتبہ، مرتبہ، حیثیت (Status) عظمت، قدر و منزلت۔ تـنـزِيلُ الـرُتْبَةِ یا تنزيلُ المَقَام: تنزّلی Demotion، تـنـزيـلٌ نقديٌّ: نظام زر میں قیمت کی کمی، روپے کی قیمت میں کمی، سکہ رائج الوقت کی قیمت کی کمی (Currency devaulation) نِـزَال و مُنَازَلة: جنگ کے لئے فوجوں کی صف بندی، لڑائی، جنگ و جدل، معرکہ کارزار، محاربہ، انزال الی البحر: بحری جہاز کو سمندر میں اتارنا۔ انزال اِلـى الـعـمل: بحری جہاز کی سفر کیلئے تیاری۔ عـدمُ التـنـازل: بے رحمی، سنگدلی، سیاست میں کٹرپن یا انتہاپسندی یا غیر مصالحانہ رویہ۔ عـقـد التـنـازل: علاقہ یا حقوق دوسرے کے حوالے کرنے کی دستاویز (deed of cession) نازل: رہنے والا، مقیم۔ نـازِلة جمع نوازِل وقوع، واقعہ، افسوسناک حادثہ، سانحہ، واردات، مصیبت، شکست، قسمت کا گھونسا یا وار، آفت بپتا، (عدالتی) مقدمہ، قانونی کارروائی۔ نـازلةٌ مدنية: سول ایکشن اوراق نـازلة: مقدمہ کی دستاویزات۔ قِسمُ النوازِل: (عدالت کے) متنازع فیہ امور کے لئے شعبہ۔ قـام بـنـازلة: قانونی کارروائی کرنا، مقدمہ شروع کرنا۔ مَنزُول: ایک قسم کی بیہوش کرنے والی دوا یا نشے کی چیز۔ مُنـزَّل: مرصع، پچی کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا۔

نزہ: نَـزَهَ ـُ نَزْهًا الابلَ: اونٹوں کو پانی سے دور رکھنا، ہٹانا۔ نَـزِهَ ـَ ونَزُهَ ـُ نَزَاهَةً و نَزَاهِيَةً: برائی سے پاک ہونا، پاکدامن ہونا۔ ـ المكانُ: جگہ کا صحت افزا ہونا۔ نَزَّهَهُ: کو بری بات سے دور رکھنا، ہٹانا۔ ـ نفسَهُ عن القبيح: اپنے آپ کو برائی سے پاک رکھنا۔ ـــ اللّـهَ عن السوء: اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیس و پاکی بیان کرنا۔ تَـنَـزَّهَ عن كذا: سے دور اور محفوظ ہونا کہا جاتا ہے: يَتَـنَـزَّهُ عـن المطامع و عـن ملائم الاخلاق: وہ مذموم اخلاق وخواہشات کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ـ فلانٌ: ہواخوری کرنا۔ إِسْتَـنْـزَهَ عن كذا: سے دور ہونا۔ فلانُ: سیر و تفریح یا ہواخوری کا خواہاں ہونا۔ النازِه: فا کہا جاتا ہے: هـو نـازِهُ الـنـفـس: وہ پاکدامن ہے۔ الـنَـزْهُ والـنَـزِه والـنَـزِيـه جمع نُزَهاء وانزَاه ونِزَاه: پاکدامن، برائیوں سے دور مكان نَزْه ونَزِه ونَزِيه: لوگوں سے دور جگہ صحت افزا اور عمدہ آب و ہوا کا مقام۔ النزَه والنَزَاهَة: برائی سے دوری النُزْهَة جمع نُزَه: سیر و تفریح۔ کہا جاتا ہے: هـو بنُزْهة من الماء او عن الماء: وہ پانی سے دور ہے۔ المُتنزَّه: تفریح گاہ، سیر و تفریح کی جگہ، ہواخوری کی جگہ۔

نزنز: نَزْنَزَ: بچہ کو ہلانا جلانا، جھولا جھلانا، گود میں اچھالنا۔

نزہ: نَزُهَ ـُ نَزَاهَةً عن: سے دور ہونا، پاک ہونا، آزاد ہونا، بچنا، دور رہنا، باز رہنا۔ نَـزِهَ ـَ نَزاهَةَ: محترم ہونا، قابل عزت ہونا، آبرومند ہونا، باعزت ہونا، مہذب و شائستہ ہونا، مناسب و معقول ہونا۔ نَـزَّهَهُ عن: کو سے بالا سمجھنا یا قرار دینا۔ تَـنَـزَّهَ بمعنی نَزُهَ نیز تَنَزَّهَ عن: سے بہت بلند ہونا۔ تَنَزَّهَ: سیر کیلئے جانا، چہل قدمی کرنا، سیر کرنا، ہواخوری کرنا، ٹہلنا، باہر جانا، جی بہلانا، مزے کرنا، اچھا وقت گزارنا۔ نَـزَهٌ ونَـزَاهَةٌ: پاکیزگی، بے گناہی، بے قصوری، دیانت، دیانت داری، نیکی، ایمانداری، غیر تمندی، غیر جانبداری، نَزِه و نَزِيه جمع نُزَهاء ونِزَاه: پاک، پارسا، نیک، پرہیزگار، عفیف، پاکدامن، بے گناہ، بے قصور، ملامت سے بالا، پاکدامن، ریکارڈ کا حامل، مہذب شائستہ، باعزت، آبرومند، قابل عزت، دیانت دار، نیک، خدا ترس، انصاف پرور، متدین، صحیح، غیر جانبدار۔ نُزْهَة جمع نُزَه ونزهات: سیر، چہل قدمی، ہواخوری۔ سیر گاہ، گشت گاہ، تفریحی سواری یا سفر۔ تفریح، تفریح گاہ، پکنک کا میدان، قابل دید مقام، سیاحوں کو کشش کرنے والی چیز۔ مَـنْـزَهة جمع مَنَازِه: تفریح گاہ، پارک، باغ۔ مُتَنَزِّه جمع مُتَنَزِّهُون: سیر کرنے والا، چہل قدمی کرنے والا، ہوا خوری کرنے والا، تفریح کرنے والا۔ مُتَـنَـزَّه: سیر گاہ، گشت گاہ، سیر، چہل قدمی، ہوا خوری، پارک۔ مُتَنَزَّهٌ جمع متنزهات: سیر گاہ، گشت گاہ، سیر چہل قدمی، تفریح گاہ، پارک۔

نزو: ا۔ نَـزَا يَـنْـزُو نَـزْوًا ونُزُوًّا ونَزَوَانًا: کودنا۔ الذكرُ على الأنثى: نر کا مادہ سے جفتی کرنا۔ چوپایوں اور درندوں سے مخصوص اسم النِـزَاء والنُـزَاء۔ به قـلـبُـهُ إلى كذا: دل کا کسی کا مشتاق ہونا۔ ـــ ت الـحُـمُـرُ: گدھوں کا خوشی سے اچھلنا کودنا۔ ـــ الطعامُ: خوراک کا مہنگا ہونا۔ ـ عليه: پر گر کر اسے روندنا۔ ـــ نَـزَوَانـاً عنه: سے بھاگ جانا۔ نَزِيَ نَـزْوًا الـرجُلُ: کا خون بہنا، کہا جاتا ہے: اصـابـه جـرحٌ فنُزِيَ منه فمات: وہ زخمی ہو کر خون بہنے اور نہ رکنے کی وجہ سے مر گیا۔ نَـزَّى تَـنْـزِيَةً و تَـنْـزِيًـا وانْـزَى إنزاءً هُ: کو کودانا۔ تَـنَـزَّى تَـنَـزِّيـاً إلى الشر: برائی میں جلدی کرنا۔ إنتَزَى إنتِزَاءً: برائی میں جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ إنتَـزَى عـلـى ارض كـذا فـاخـذهـا: اس نے کسی زمین پر قبضہ کرنے میں جلدی کی۔ النَزْوَة: کودائی، کودنا، چھلانگ۔ النَازِيَة: نـازی کا مونث: تیزی، تیز روی۔ أَكَـمَـةٌ نَـازِيَةٌ: اردگرد کی پہاڑیوں سے اونچی پہاڑی۔ الـنَـزَوَان (مص): جوش و تیزی، کہا جاتا ہے: به نَزَوَانٌ: اس میں جوش اور تیزی ہے۔ الـنَـزِيُّ والـنَـزَّاء والـمُـنْـتَـزِي: بہت اچھلنے کودنے والا۔ الـنَـزِيَّة: نَزِيّ کا مونث، اچانک پیدا ہونے والا شوق، اچانک آنے والی مصیبت۔

۲۔ الـنَـازِيَة: کم گہرا پیالہ۔ الـنَـازِيّ: نازی (ہٹلر کی جرمنی میں) قومی اشتراکی پارٹی کا رکن۔ النَازِية: جرمنی کا قومی عقیدہ، (Nazism) الـنَزْوَة: چھوٹی چیز۔ النَزِيَّة: بادل، کم گہرائی والا پیالہ، کلہاڑی کی دھار۔

نَـزَا ـُ نَزْوًا ونُزُوًّا ونَزَوَانًا: کودنا، اچھلنا، پھلانگنا، پھاندنا، چھلانگ لگانا، چونک اٹھنا، خوف سے اچھل پڑنا، چھلانگیں لگاتے ہوئے جانا۔ ـــ نزوانًا عن: سے بچ نکلنا۔ نـزا بـه قلبـه إلى: کا آرزومند ہونا، متمنی ہونا، کا مشتاق ہونا، کی آرزو ہونا، کی آرزو میں مرنا۔ تَنَزَّى: کودنا، اچھلنا، پھلانگنا، پھاندنا، چھلانگ لگانا، سخت بےچینی یا اضطراب کی حالت میں ہونا، مضطرب ہونا۔ (سینہ کا) ابھر کر گرنا، چڑھنا اترنا۔ کانپنا، تھرانا، لرزنا۔ نَـزَوَان: جست، زقند، جھپٹ، محصور فوج کا حملہ آوروں پر حملہ یا ہوائی دستے کی مہم، پھٹ پڑنا، (وبا کا) پھوٹ پڑنا، (جنگ کا) اچانک شروع ہونا، وفور

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جوش۔ نَزْوَة جمع نَزَوات: چھلانگ، خوف سے اچھل پڑنا، جست، پھلانگ، زقند، طرارہ، چوکڑی، جھپٹ، محصور فوج کا نکل کر حملہ کرنا، ہیجان، وفور جوش، جنگ کا آغاز، تلاطم، چڑھنا، امنڈنا، جھلملاتی لو، لرزاں شعلہ، بھبھوکا، جوش، تندی، تیزی، تشدد، شدت تختی، لہر، موج، غلبہ، حملہ، اچانک غلبہ، دورہ، ترنگ، من کی موج کاری، تخیل کی جولانی۔

نس: ا۔ نَسَّ ـِ نَسًّا و نسیساً فلانٌ: ہر ایک کام میں پھرتیلا ہونا۔ الناقةَ: اونٹنی کو ہانکنا، ڈانٹنا، کہا جاتا ہے: کان ینسّ اصحابَهُ: وہ اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ و ــــ نَسًّا و تَنْسَاسًا القومُ: پانی پر آنا۔ نَسَّسَ الماشیةَ: مویشیوں کو چلانا۔ النَسِیس (مص) جسم میں بقیہ سانس دم، اپسیں، آخری سانس، کہا جاتا ہے: بلغ منه نسیسه: وہ مرنے کے قریب ہوا، مرنے لگا۔ ــــ جمع نُسُس: بانکا ہوا، انسان وغیرہ کی انتہائی کوشش، طبیعت، النسس: بیکار اور ردی چیزیں النَسِیسة جمع نَسَائِس: طبیعت، کہا جاتا ہے: بلغ منه نسیستهُ: وہ مرنے کے قریب ہوا۔ التَنْسَاس (مص): تیز چال۔ المِسَّة و المِنساس: لاٹھی۔

۲۔ نَسَّ ـِ نَسِیسًا و نُسُوسًا الخبزُ او اللحمُ: روٹی یا گوشت کا خشک ہونا۔ نَسَّ ـِ نُسُوسًا الحطبُ: جلنے میں لکڑی کا اپنے سرے سے پانی یا جھاگ نکالنا۔ أنسّ الدابّةَ: چوپایہ کو پیاسا کرنا۔ الناسّ فا، خبزٌ ناسٌّ: خشک روٹی، النَسِیس جمع نُسُس: سخت بھوک، جلنے والی لکڑی کے دوسرے سرے پر نکلنے والا پانی یا جھاگ۔ النَسِیسة جمع نَسَائِس: جلتی لکڑی کے سرے پر ظاہر ہونے والا پانی۔

۳۔ نَسَّ ـِ نُسُوسًا لفلان: سے دریافت کرنا۔ تَنَسَّسَ منه الاخبارَ: سے خبر کی بھنک لینا، سے خبر کی تاک میں رہنا۔ النَسِیسة جمع نَسَائِس: چغلی۔

۴۔ نَسْنَسَ الطائرُ: پرندے کا جلدی کرنا۔ ــ البعیرَ: اونٹ کو ہانکنا۔ ڈانٹنا ــــ ت الریحُ: ہوا کا چلنا۔ نَسْنَاسُ الانسانِ وغیرہ: انسان وغیرہ کی کوشش اور صبر و استقامت۔

۵۔ نَسْنَسَ الرجُلُ: کمزور ہونا۔ النِسْنَاس: سخت بھوک، النُسْنَاس (ح): ایک خیالی جانور جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کی شکل کا ہوتا ہے۔ ــ عند العامة: بندر کی ایک قسم۔

نسأ: ا۔ نَسَأَ ـَ نَسْأً و مَنْسَأَةً الشیْءَ: کو موخر کرنا، کہا جاتا ہے: نَسَأَ اللّٰهُ أَجَلَهُ وفی أَجَلِه: اللہ تعالیٰ اس کی موت کی گھڑی کو موخر کرے۔ ـــ فلاناً: کی نگہبانی کرنا۔ ــ هُ البیعَ و فی البیع: کو ادھار بیچنا۔ ــ نَسَأَ الدابَّةَ: جانور کو ڈانٹنا، ہانکنا، کو تالاب سے دور ہٹانا۔ ــــ نَسَأَ عن فلان دَیْنَهُ: کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا۔ نَسَّأَ تَنْسِئَةً الدابَّةَ: جانور کو ہانکنا، ڈانٹنا۔ انْسَأَ إنْسَاءً الشیْءَ: کو موخر کرنا، کہا جاتا ہے: أنْسَأَ اللّٰهُ اجلَهُ و فی اجله: اللہ تعالیٰ اس کی موت کی گھڑی کو موخر کرے۔ ـــــ هُ البیعَ و فی البیع: کو کوئی چیز ادھار دینا۔ ـــــ عنه: سے پیچھے اور دور ہونا۔ إنتَسَأَ عنه: سے پیچھے ہونا۔ ــــ تِ الابلُ فی المرعی: اونٹوں کا چراگاہ میں دور نکل جانا۔ إسْتَنْسَأَ غریمَهُ: قرض خواہ سے مہلت مانگنا اور اس کا مہلت دیدینا۔ النَسَاء: درازی عمر۔ النُسْأَة والنسیئه: مہلت، تاخیر، کہا جاتا ہے: باعَهُ بنسیئةٍ: اس نے اسے ادھار پر کوئی چیز فروخت کی۔ النَسِی: تاخیر، کہا جاتا ہے: انّ لی عنك لمُنتسأً: مجھے تمہاری وجہ سے بلندی اور آسودگی ملی ہوئی ہے۔ المِنسَأة و المَنْسَأة و المِنسَاة و المَنْساة: چرواہے کی بڑی لاٹھی۔

۲۔ نَسَأَ ـَ نَسْأً ت الماشیةُ: مویشی کا موٹاپا ظاہر ہونا النَاسِی (فا) جمع نَسَأَة: موٹا جانور یا انسان۔

۳۔ نَسَأَ ـَ نَسْأً اللبنَ بالماء: دودھ میں پانی ملانا۔ ــ هُ: کو لسی پلانا۔ النسءُ (مص): بہت پانی والا دودھ (دودھ کی لسی) عقل زائل کرنے والی شراب۔ النِسْءُ: گھل مل کر رہنے والا۔ النَسِی: بہت پانی والا دودھ۔

۴۔ النَسْءُ: موٹاپا یا اس کا آغاز۔

نَسَأَ ـَ نَسْأً ه: کو ملتوی کرنا، (کام) لٹکائے رکھنا، میں دیر لگانا، کو موقوف رکھنا، ٹالنا، میں تاخیر کرنا، ڈھیل کرنا، کو معرض تعویق میں ڈالنا۔ ــ نَسَّأَهُ: کو ادائیگی کیلئے مہلت دینا، کو قرض دینا، ادھار دینا۔ أنسَأَ: بمعنی نَسَأَه نَساء لمبی عمر۔ نِساء عورتیں۔ نَسِیئة: قرض، ادھار، ادائیگی میں تاخیر۔ نَسِیئَةً: ادھار۔ مِنسَاة: چھڑی، ڈانڈا، سونٹا، لاٹھی، عصا۔

نسب ا۔ نَسَبَ ـِ نَسَبًا و نِسْبَةً الرجُلَ: کے اوصاف بتانا، کا نسب بیان کرنا، کا نسب دریافت کرنا۔ ــ هُ إلی فلان: کو سے منسوب کرنا۔ نَسَبًا و نَسِیبًا و مَنْسِبَةً الشاعرُ بالمرأة: محبوبہ کے بارے میں سرور آفرین نظم کہنا، غزل میں محبوبہ کی خوبی بیان کرنا، سے معاشقہ کرنا، نَاسَبَ مُنَاسَبَةً هُ: کے نسب میں شریک ہونا، کا قریبی ہونا، کا مشابہ ہونا۔ تَنَسَّبَ الرجُلُ الیك: مرد کا (تیرے) خاندان یا نسب میں ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اس سے ضرب المثل ہے، القریب من تَقَرَّبَ لا من تَنَسَّبَ: قریبی وہ ہے جو محبت اور پیار کی وجہ سے نزدیک ہو نہ کہ خاندان اور نسب میں ہونے کا دعویٰ کرے۔ تَنَاسَبَ القومُ إلی أحْسَابِهِم: اپنا نسب ظاہر کرنا یا بیان کرنا، منسوب ہونا۔ تَنَاسَبَ: باہم مشابہ ہونا۔ انْتَسَبَ الرجُلُ: اپنا نسب ظاہر کرنا، بیان کرنا۔ انْتَسَبَ إلی ابیه: اپنے باپ سے منسوب ہونا۔ إسْتَنْسَبَ: اپنا نسب بتانا۔ ــ الرجُلَ: سے اس کا نسب پوچھنا۔ ــــ الشیْءَ: کو مناسب و موزوں پانا۔ النَسَبُ (مص) جمع أنْسَاب: قرابت، رشتہ داری۔ النِسْبَة و النُسْبَة: قرابت، رشتہ داری، دو چیزوں کے درمیان ربط اور تعلق چیزوں اور تعداد اور مقدار کے درمیان کی نسبت، مثلاً کہا جاتا ہے کہ ۴ کی ۸ سے نسبت ۵ کی ۱۰ سے نسبت جیسی ہے۔ بالنسبة الی کذا: کی بابت، کے متعلق، کے بارے میں، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کی بابت، کی نسبت، دربارہ کے مقابلہ میں کے سلسلہ میں۔ النِسْبِیَة: نظریہ اضافت، یہ نظریہ کہ فاصلہ اور وقت محض اضافی ہیں۔ النَسَابة: قرابت، النَسّاب جمع نَسَّابون و النَسَّابة جمع نَسَّابات: نسب کا علم رکھنے والا، شجرہ کا جاننے والا۔ النَسِیب (مص) جمع أنْسِبَاء و نُسَبَاء (جیسے شریف و شرفاء): مناسب، قریبی، رشتہ دار، خاندانی عورتوں کے متعلق لطیف شعر۔ الأنْسَب: اسم تفضیل، زیادہ مناسب، زیادہ لائق، زیادہ آرام دہ، کہا جاتا ہے: هذا الشِعر انْسَبُ من ذاك: یہ شعر اس شعر سے زیادہ لطیف ہے۔ المُنَاسِب (فا): قریبی، مشابہ، رشتہ دار۔ المَنْسُوب جمع مَنَاسِیب مفع۔ شِعر مَنْسُوب: عشقیہ غزل۔ خطٌ مَنْسُوب: (ثلث کا) کا قاعدہ۔

۲۔ نَیْسَبَ بَیْنَهُما: دونوں کے درمیان چغلخوری کے لئے دوڑ دھوپ کرنا۔ النَیْسَب: چیونٹیوں کی قطار، چیونٹیوں کا راستہ یا سانپ کا راستہ۔ ــ و النَیْسَبَان: سیدھا اور واضح راستہ۔

نَسَبَ ــــ نَسَباً نِسْبَةً ه إلی: کا سے تعلق قائم کرنا، واسطہ یا ربط قائم کرنا، کو کے سپرد کرنا، کو کے پاس بھیجنا، کو سے مربوط کرنا، کو سے لازم و ملزوم بنانا، کی اصل کا پتہ لگانا۔ ــ ہ إلی: کے آباؤ اجداد کا پتہ لگانا۔ ـــ ہ إلی / لِ: کو سے منسوب کرنا، کو سے متہم کرنا۔ نَاسَبَ ہ: کا رشتہ دار ہونا۔ ـــ ہ/ہ: کا جوڑا ہونا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے برابر ہونا۔ ـــ ہ: کے مطابق ہونا۔ ـــ ہ/ہ: کے لئے موزوں ہونا، کو فٹ آنا۔ ــ ہ: کو زیب دینا۔ سجنا۔ پھبنا۔ کے لئے مناسب ہونا۔ موزوں ہونا۔ ـــ ہ: سے ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا، کے لئے آرام دہ ہونا، ـ ہ: کے خاندان سے ہونا، شادی سے کا رشتہ دار ہونا۔ تَـنَاسَبَ: ایک دوسرے کا رشتہ دار ہونا، ایک جیسا ہونا، ملتا ہوا، یکساں، مشابہ، یا ہم شکل ہونا، باہم مماثل، مساوی ہونا، مطابقت رکھنا، متناسب ہونا، باہم فٹ ہونا، ـــ مع: کے مطابق ہونا، کے لئے آرام دہ ہونا۔ اِنْتَسَبَ الی: سے متعلق ہونا، کی اصل یا نسل سے ہونا، سے اپنے آباؤ واجداد کا کھوج لگانا۔ سے اپنا نام حاصل کرنا، کے نام پر نام والا ہونا۔ سے متعلق ہونا، کا رشتہ دار ہونا، کا ہم صحبت ہونا، سے تعلق رکھنا، سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، سے ملحق ہونا، کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونا، کسی جماعت میں داخل ہونا، سے الحاق ہونا اِسْتَنْسَبَ ہ: کے آباؤ اجداد کا کھوج لگانا۔ ـــ ہ: کو مناسب اور موزوں سمجھنا۔ کو پسند کرنا۔ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔ کی منظوری دینا، کی تلافی کرنا۔ نَسَب جمع اَنساب: سلسلہ نسب، نسب، شجرہ نسب، پشت، پیڑھی، نسل و مذہب، اصل، خونی رشتہ، برادری، قرابت، روحانی رشتہ، رشتہ داری، مشابہت، نسبت، لگاؤ، تعلق، شادی کے ذریعہ رشتہ داری، سلسلة النسب: شجرہ نسب، خاندان، نسب، علم الانساب۔ علماء الانساب: نسب دان، ماہر انساب۔ نِسْبَة: تعلق، لگاؤ، نسبت، انتساب، خاصیت، تہمت، الزام، بہتان، خونی رشتہ داری، برادری، قرابت، مشابہت، بذریعہ شادی رشتہ داری، ربط، ہم آہنگی، موافقت، مطابقت، مشابہت جمع نِسَب: تعلق، لحاظ، سپردگی، نسبت، لگاؤ، علاقہ، برتاؤ، ڈھنگ، طرزِ عمل، نسبت عددی یا حسابی، مقدار، قدر تناسب، شرح، نرخ، اندازہ، درجہ پایہ، ناپ تول، پیمائش، تناسب، مناسبت، قرینہ، اربعہ متناسبہ، جسامت، فیصد، فی صدی، تناسب فی صدی، نسبت جسے لفظ کے آخر میں 'ی' لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ نِسْبَةً الی (لِ) یا بالنسبة إلی: کی بابت، کے متعلق، کے بارے میں، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کی بابت، کی نسبت، کے مقابلہ میں، کے سلسلہ میں علی نِسْبَة: کے تناسب میں، کے مطابق کے موافق، کے مناسب۔ نِسْبَةُ الموت: شرح اموات۔ نِسْبَة مِئَوِيَّة: فی صد، فی صدی، تناسب فی صدی۔ نِسْبِی (قواعد) موصولہ (منطق) لازم و ملزوم۔ متناسب، اضافی، اعتباری، قرابت دار، منحصر، موقوف، نسبتی، تقابلی، تناسبی، متناسب، ہم نسبت، ہم مقدار۔ نِسْبِيًّا: نسبتی طور پر، اضافی طور پر نسبَةً وزنٌ نِسبی: ثقل نوعی، کثافت نوعی (Specific gravity)۔ نِسْبِيَة: نظریہ اضافت (یہ نظریہ کہ فاصلہ اور وقت محض اضافی ہیں) نَسِیب: قدیم عربی قصیدہ کا عاشقانہ تعارف جمع اَنسباء: رشتہ دار، رشتہ دار (بذریعہ شادی)، دیور یا جیٹھ، بہنوئی، داماد، ممتاز خاندان کا، عالی نسب، خاندانی، اونچے خاندان کا۔ اَنْسَب: کافی سے زیادہ، زیادہ مناسب، زیادہ موزوں، زیادہ اہل، زیادہ صحیح، زیادہ ٹھیک، زیادہ درست۔ لمناسبةِ یا فی مناسبةِ یا بمناسبة: کے موقع پر۔ لهذه المناسبة: ان حالات کی وجہ سے، اس وجہ سے، اس لئے، فی کل مناسبةٍ: جب موقعہ ملے، ہر موزوں موقعہ پر۔ عدم التناسب: عدم تناسب، عدم توازن۔ اِنتساب: رکنیت الحاق، طالبٌ بالانتساب: الحاقی طالب علم۔ منسوب جمع مناسیب: سطح، پانی کی سطح، ارتفاع۔ مَنسُوبُ البحر: سطح سمندر۔ مناسیب عالیہ: پانی کی بلند سطحیں، مد، جوار بھاٹا۔ مَنْسُوبِيَة: خویش پروری۔ متناسب الاجزاء: متناسب، متوازن، ہم آہنگ۔ مُنْتَسِب: رکن، الحاقی۔ عُضْوٌ مُنْتَسِب: کسی ادارے کا معمولی رکن۔

نست: النَاسُوت: انسانی فطرت، انسان، نسل انسانی، بشریت، بشری خصائل، انسانی ہمدردی۔

نسج: ا۔ نَسَجَ ـِـ نَسْجًا الثوبَ: کپڑا بننا۔ ــــ الکلامَ: کلام کا خلاصہ کرنا کلام گھڑنا، کلام میں ردو بدل کرنا، کو آراستہ کرنا۔ ـــ الشاعرُ الشعرَ: شاعر کا شعر نظم کرنا۔ ــ الغیثُ النبات: بارش کا نباتات کو نجان اگانا۔ ـــ تِ الریحُ التراب او الماءَ: ہوا کا مٹی یا پانی پر لہریں بنانا۔ اِنْتَسَجَ: بنا ہوا، بُنا جانا، ریت کا یا پانی کا دھاری والا ہونا۔ النَسْج: مص: کہا جاتا ہے: ثوبٌ نَسْجُ الیمن: یمن کا بنا ہوا کپڑا۔ النساجة: النَسَّاج: کپڑے بننے والا، کلام کا خلاصہ کرنے والا، یا کلام گھڑنے والا اور اس میں ردو بدل کرنے والا، کلام کو آراستہ کرنے والا، جھوٹا۔ النسیج جمع نُسُج: بنا ہوا۔ هو نسیج وَحْدِهِ: وہ لاثانی ہے اچھی صفات کے لحاظ سے منفرد ہے۔ النُسُج: جائے نمازیں۔ النَسِیجَة جمع نَسَائِج نَسِیج کا مونث۔ المَنْسَج و المَنْسِج: بننے کی جگہ، جولاہے کا کارخانہ۔ المِنسَج والمنساج: کرگہ۔

۲۔ نَسَجَ ـُـ نَسْجًا: الناقةُ فی سیرها: اونٹنی کا تیز رفتار سے چلنا۔ المَنْسِج و المَنسَج من الدابة: جانور کے کندھوں اور گردن کی جڑ تک کا بالائی حصہ، کہا جاتا ہے: وَضَعَ رمحَهُ علی منسج فرسه: اس نے اپنا نیزہ گھوڑے کی گردن پر رکھا۔

○ نَسَجَ ـِـ نَسْجًا ہ: کو بننا، کو سلائی سے بنانا۔ نَسَجَ علی مِنْوَالِهِ: کی تقلید کرنا، کے نقش قدم پر چلنا، کی طرح عمل کرنا۔ نَسَجَ نُسْجَه: یہی معنی۔ انتسج: بنا جانا۔ نَسْج: بننا، کپڑا، بناوٹ، بافت، ساخت۔ نَسْجُ الخیال: فرضی قصے کہنا۔ پروازِ تخیل۔ نَسَّاج: بننے والا، جولاہا، پارچہ باف۔ نِسَاجَة: بننے کا پیشہ یا فن۔ پارچہ بافی کی صنعت۔ نسیج جمع نُسُج و انسِجَة و انساج: بناوٹ، بافت، پارچہ، بافتہ بنی ہوئی چیز، بنا ہوا کپڑا، پارچہ۔ نسیج خلوی: جالی دار کپڑا۔ نَسِیجُ العَنْکَبُوت: مکڑی کا جالا، تار عنکبوت، جالے جیسی بودی شئے۔ نسیج وَحْدِهِ: اپنی قسم یا نوع میں منفرد، لاثانی، یکتا، لاجواب، انوکھا، نرالا۔ نَسِیجُ عَصْرِهِ: اپنے وقت کا بے مثال، یکتائے روزگار، مِنْسَج: جولاہے کا کرگہ۔ مَنْسَج و مَنْسِج جمع مَنَاسِج: جولاہے کی دکان جولاہے کا کارخانہ۔ مَنْسُوج: بنا ہوا، بنا ہوا کپڑا، کپڑا، پارچہ، بافتہ، بناوٹ، بافت، ریشہ۔ مَنْسُوجات: بنی ہوئی چیزیں، اناج گلہ، کپڑے۔

نسح: نَسَحَ ـَـ نَسْحًا التراب: مٹی بکھیرنا۔ نَسِحَ ـَـ نَسَحًا: لالچ کرنا، طمع کرنا۔ النُسْح و النُساح: کھجوروں کا کوڑا کرکٹ۔ المِنْسَاح: غبار اڑانے کا آلہ۔

نسخ: نَسَخَ ـَـ نَسْخًا الشیَّ: کو زائل کرنا، باطل کرنا، مسخ کرنا۔ ـــ الکتابَ: کتاب کو حرف بحرف نقل کرنا۔ نَاسَخَ مُنَاسَخَةً ہ: ایک دوسرے کو محو کرنا۔ تَنَاسَخَتِ الأزمنةُ: زمانوں کا پے در پے آنا۔ ـــ الوَرَثَةُ: میراث تقسیم ہونے سے پہلے وارثوں کا ایک دوسرے کے بعد مر جانا۔ تَنَاسَخَا: ایک دوسرے کو محو کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ تَنَاسَخُوا الشیَّ: چیز کو ایک دوسرے کو منتقل کرنا، یکے بعد دیگرے لینا۔ إنْتَسَخَ الشیَّ: کو زائل کرنا۔ الکتاب: کو نقل کرنا۔ الشیءُ الشیَّ: ایک چیز کا دوسری چیز کا قائم مقام ہونا۔ إسْتَنْسَخَ الشیَّ: کو زائل کرنا، کوئی چیز لکھنے کو کہنا۔ الناسِخ (فا): کتابوں کو نقل کرنے والا۔ النَسْخُ عند التناسُخِيَّة: تناسخ، آواگون،

Purchase .This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

روح کا ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہونا ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو تناسخیہ کہتے ہیں۔ النُّسْخَة جمع نُسَخ: وہ کتاب جس سے نقل کی جائے، نقل کی ہوئی کتاب، کہا جاتا ہے: کتب القاضی نُسْخَتَيْنِ بحکمه: جج (منصف) نے اپنے حکم کی دو نقلیں کیں۔ بلدةٌ نسيخةٌ ونُسَخِيّ: دور کا شہر۔ التناسُخ (مص): روح کا ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہونا جو تقمص کے نام سے معروف ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے والے التناسُخِيَّة کہلاتے ہیں۔ تَنَاسُخ الازمنةِ والقُرون: زمانوں اور صدیوں کا پے در پے آنا۔

○ نَسَخَ ـ نَسْخًا ہ: کو قلمزد کرنا، منسوخ کرنا، ختم کرنا، کالعدم قرار دینا، واپس لینا۔ ــــ ہ معاہدہ، ٹھیکہ وغیرہ) منسوخ کرنا۔ ــــ ہ ب: کو کے بدلہ میں دینا، رکھنا، لگانا وغیرہ، کو کی جگہ رکھنا، کو کا قائم بنانا۔ ــــ ہ: تحریر کی نقل کرنا۔ نَاسَخَ ہ: کو منسوخ کرنا، ترک کرنا، کی جگہ لینا۔ تَنَسَّخَ: قلمزد کیا جانا، منسوخ ہونا، کالعدم قرار دیا جانا۔ تَنَاسَخَ: ایک دوسرے کا جانشین ہونا، ایک دوسرے کے بعد آنا، پے در پے آنا، روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں جانا، روح کا تناسخ ہونا۔ اِنْتَسَخَ ہ: کو منسوخ کرنا، ختم کرنا، کو کالعدم قرار دینا، (تحریر وغیرہ) کو نقل کرنا، کی کاپی کرنا۔ اِسْتَنْسَخَ ہ: کے خاتمہ کا مطالبہ کرنا، تحریر وغیرہ کی نقل کرنا، کاپی کرنا۔ نَسْخ: خاتمہ، انسداد، موقوفی، منسوخی، نسخ، تنسیخ، ترک، ابطال، نقل کرنا، کاپی کرنا۔ قَلَمُ النَّسْخ: کاپنگ پنسل Copying pencil۔ آلةُ النَّسْخ: نقل گیر کل Duplicating machine چھاپ کل mimeograph، نقلیں تیار کرنے والا پریس نَسْخِي: عام رواں عربی رسم الخط، عام خوش نویسانہ انداز۔ نُسْخَة جمع نُسَخ: نقل، (کتاب اخبار وغیرہ کی) کاپی۔ نَسَّاخ جمع نُسَّاخة: نقل نویس، منشی، کاتب، کلرک، تَنَاسُخ: کے بعد ہونا یا آنا سلسلہ، جانشینی، تناسخ: آواگون، مرنے کے بعد روح کا نئے جون میں آنا (Metempsychosis) استنساخ: نقل کرنا۔ نقل، کسی کتاب کی نقل۔ ناسخ: نقل کرنے والا، منسوخ کرنے والا، ختم کرنے والا۔ آية ناسخة: قرآن مجید کی وہ آیت جو دوسری آیت کو منسوخ کرے۔ منسوخ: منسوخ (قرآنی آیت)

نسر: ۱۔ نَسَرَ ـ نَسْرًا ہُ عنه: کو سے اتارنا، ادھیڑنا۔ ــ الجرحُ اللحمَ: زخم کا گوشت میں شگاف کر دینا۔ ــ الرجُلَ: پر تہمت لگانا، کی بدگوئی کرنا۔ ـِ نَسْرًا ہُ البازی: بازی کا چونچ سے کا گوشت نوچنا۔ نَسَّرَ الحبلَ: رسی کا بل کھولنا۔ تَنَسَّرَ: گدھوں کا شکار کرنا۔ ــ الحبلُ: رسی کا ٹوٹنا۔ الجرحُ: زخم کا پھول اور پھٹ کر مواد بہنا۔ ــ الثوبُ و نحوهُ: کپڑے وغیرہ کا گھس گھس کر ختم ہو جانا۔ ــ ت النعمةُ عن فلان: سے آسودگی کا رخصت ہو جانا۔ انتَسَرَ طرفُ الحبل: رسی کا کنارہ ٹوٹ جانا۔ اِسْتَنْسَرَ الطائِرُ: پرندے کا قوت میں گدھ کی طرح ہونا۔ ضرب المثل ہے۔ ان البعاث بارضنا يستنسر: ہماری زمین میں کمزور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ النَّسْر (نون کی تثلیث کے ساتھ) زبر زیادہ مشہور اور فصیح ہے جمع نُسُور وانْسُر ونِسَار (ح): گدھ، کنیت ابو الابرد اور ابو الاصبع وابو مالک وابو المنہال وابو یحیٰ ہے۔ مادہ کو ام قَشْعَم کہتے ہیں۔ جمع نُسُور: گھوڑے کے سم کا اندرونی غدود۔ النَّسْران (فلک): دو ستارے۔ ایک النسر الطائر اور دوسرا النسر الواقع کہلاتا ہے۔ النُّسَارِيّة: عقاب، الناسُور جمع نَوَاسير: ناسور، ہمیشہ بہنے والا زخم۔ عوام اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں: نَوْسَرَ الجرحُ او العظمُ: زخم یا ہڈی میں ناسور ہو گیا (معرب سریانی لفظ) المِنْسَر والمَنْسِر جمع مَنَاسِر: شکاری پرندے کی چونچ (اع) بڑے لشکر کے آگے رہنے والا فوجی دستہ۔

۲۔ النِّسْرِين: واحد نِسْرِينة (ن): گل سیوتی (فارسی لفظ)

○ تَنَسَّرَ: پھٹ جانا، ٹوٹنا، ٹوٹ جانا، تراتے سے کھلنا۔ مِنْسَر ومَنْسِر جمع مناسر: گروہ، منڈلی، جتھا، جماعت، زمرہ، ٹولی، طائفہ، غول، فوجی دستہ یا رسالہ نُسْطُوری جمع نَسَاطِرة: یونان کے قدیم فرضی پیر دانا اور بادشاہ کا یا کے متعلق۔

نسع: ۱۔ نَسَعَ ـ نَسْعًا و نُسُوعًا فلانٌ فی الارض: وَنَسَّعَ ت الأَسْنَانُ: دانتوں کا ڈھیلے مسوڑوں والا ہونا۔ اِنْتَسَعَ ت الابلُ: اونٹوں کا چراگاہ میں پھیل جانا۔

۲۔ نَسَعَ ـ نُسُوعًا الشیُّ: دراز ہونا، لمبا ہونا۔ أَنْسَعَ الرجُلُ: شمالی ہوا کھانا۔ النَّاسِع (فا): لمبی گردن، النِّسْع جمع نُسُع ونِسَع نُسُوع وانْسَاع: اونٹ کے تنگ کا تسمہ، اس کے ٹکڑے کو نِسْعَة کہا جاتا ہے، ہاتھ کا جوڑ۔ ــ والريحُ النِّسْعِيَّةُ: شمالی ہوا۔ [illegible]

النُّسُوع (مص): لمبائی۔ المِنْسَع: شمالی ہوا۔ المِنْسَعَة: لمبی نباتات والی زمین۔

۳۔ أَنْسَعَ الرجُلُ: پڑوسیوں کو بہت ایذا دینا۔

نسغ: ۱۔ نَسَغَ ـ نَسْغًا ہُ بالسوط: کو چابک مارنا۔ الخبزةَ: روٹی پر لوہے وغیرہ سے گودنا۔ ــــ ت الواشمةُ بالإبْرَة: جسم کو گود کر نقش بنانا۔ ہُ بکلمة: کو طعن و تشنیع کرنا۔ ــ ہُ بکذا: اللبنَ بالماء: دودھ میں پانی ملانا۔ نَسَّغَ ہُ: کو نیزہ مارنا۔ ــ ت الشجرةُ: کٹنے کے بعد درخت کا پھوٹ آنا۔ أَنْسَغَ ہُ: کو نیزہ مارنا۔ ــ ہُ بالسوط: کو چابک مارنا۔ ــ تِ الشجرةُ: کٹنے کے بعد درخت کا پھوٹ پڑنا۔ ــ ت الفسيلةُ: کھجور کے پودے کا گودا نکالنا۔ الناسِغ جمع نُسَّغ فا، رجُلٌ ناسِغٌ: نیزہ بازی میں ماہر۔ النُّسْغ (ز): پودہ کا رس جو تنے اور پتوں میں دوڑتا ہے۔ المِنْسَغَة: جسم گودنے کا آلہ، روٹی گودنے کی چیز۔

۲۔ نَسَغَ ـ نَسْغًا فی الارض: زمین میں جانا۔ ــ وَنَسَّغَ ت اسنانهُ: دانتوں کی جڑیں ڈھیلی پڑنا۔ اِنْتَسَغَ تِ الإبلُ: اونٹوں کا چراگاہ میں پھیل جانا، بکھر جانا۔ ــ الرجُلُ: سوچ بچار کرنا۔ النَّسِيغ: پسینہ۔

○ نسغ: پودے کا عرق، رس۔

نسف: ۱۔ نَسَفَ ـِ نَسْفًا البناءَ: عمارت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ــ الجبالَ: پہاڑوں کو گرانا۔ ــ الشیَٔ: کو چھانٹنا۔ ــ الحبَّ بالمِنْسَف: غلہ کو چھاج سے پھٹکنا ــــ ت الريحُ الترابَ: ہوا کا مٹی کو اکھیڑنا، اڑانا۔ ــ ـُ نَسْفًا و نُسُوفًا ہُ: کو دانت سے کاٹنا۔ أَنْسَفَ تِ الريحُ الترابَ: ہوا کا مٹی کو اکھیڑنا، اڑانا۔ تَنَسَّفَ فی الصراع: کشتی میں مدمقابل کو پچھاڑنا۔ تَنَاسَفَا الكلامَ: ایک دوسرے کو راز دار بنانا۔ هما يتناسفان: وہ ایک دوسرے سے راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اِنْتَسَفَ البناءَ: عمارت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ــ الشیَٔ: کو اکھیڑنا۔ ــ ت الريحُ الشیَٔ: کو ہوا کا اکھیڑ کر متفرق کرنا۔ اڑا دینا۔ ــــ الكلامَ: کان میں بات بتانا۔ انتسفوا الكلامَ بينهم: بات کو چھپانا۔ اُنْتُسِفَ لونه: کا رنگ متغیر ہونا۔ النسفه: (بتثلیث النون) والنَّسَفَة جمع نِسَف ونُسُف ونِساف: جھاواں۔ النُّسافَة: زمین کا غبار، غلہ کا پھوڑن۔ دودھ کی جھاگ۔ النَّسَّاف والنُّسَّاف جمع نَسَاسِيف: ایک سینگ دار بڑی چونچ والا پرندہ۔ النَّسَّافة (اع): تارپیڈو

maarfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بوٹ (Torpedo boat) تارپیڈو کشتی۔ الطائرة النسّافة: ہوائی جہاز جو دشمن کے جہازوں کو بھک سے اڑا دے۔ النسوف جمع مناسیف: اونٹ جو گھاس کو جڑ سے اکھیڑے۔ عقبةٌ نسوفٌ: لمبی اور دشوار گزار اڑھائی۔ السیف: کاٹنے کا نشان، راز۔ سیٌّ نسیف: چھانی ہوئی چیز۔ کلامٌ نسیف: پوشیدہ گفتگو۔ النسیفة: چھاواں۔ المنسف جمع مناسف: چھاج۔ ـــ والمنسِف جمع مناسِف: گدھے کی تھوتھنی۔ المنسفة: عمارت اکھیڑنے کا آلہ، چھلنی۔

۲۔ نسف ـــ نسفًا ونسوفًا الاناءُ: برتن کا بھر کر بہہ جانا۔ النسفان من الآنية: بھر کر بہنے والا برتن۔

(ن) نسف ـــ نسفًا ہ: کو پیسنا، سرمہ کر دینا، کو ناقابل تقسیم ذرات میں تقسیم کرنا، پر پھوار ڈالنا، ہلکا چھڑکاؤ کرنا، ہوا کا گرد و غبار اڑا لیجانا اور بکھیرنا، کو بھک سے اڑا دینا، بحری جہاز کو تارپیڈو مارنا یا تارپیڈو مار کر تباہ کرنا یا ڈبو دینا۔ انتسف ہ: ہوا کا گرد و غبار اڑا لیجانا اور بکھیر دینا۔ انتسف ہ: کو اڑا دینا، مسمار کر دینا، زمین کے برابر کر دینا، کو بھک سے اڑا دینا۔ نسف: بھک سے اڑانا۔ تباہی انہدام۔ نسافة: بھوسہ، چوکر، گھاس پھوس، کٹی ہوئی گھاس یا چربی۔ نسّافة جمع نسّافات: تارپیڈو کشتی۔ منسف ومنسفة جمع مناسف: چھاج، ناسف و ناسفة: دھماکے سے پھٹنے والا یا بھک سے اڑ جانے والا مادہ) ڈینا مائٹ (Dynamite)

نسق: نسق ـ نسقًا الدرّ ونحوه: موتی وغیرہ پرونا۔ ـــ الکلامَ: کلام کو ترتیب دینا۔ نسّق الشيءَ: کو ترتیب دینا، منتظم کرنا۔ ناسق بینهما: ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔ انسق الرجلُ: سجع کہنا۔ تنسّق وتناسق و انتسق ت الاشیاءُ: باترتیب ہونا، نظم میں ہونا۔ تناسق کلامُهُ: کے کلام کا ترتیب وار ہونا صفت متناسق، النسق (مص)۔ حروف النسق: حروف عطف، کہا جاتا ہے: هذا نسقٌ علی هذا: وہ اس پر معطوف ہے۔ النسق: باترتیب کہا جاتا ہے: جاء القومُ وجاء ت الخیلُ نسقًا: لوگ باترتیب آئے گھوڑے باترتیب آئے۔ غرستُ النخل نسقًا: میں نے کھجور کے پودوں کو ایک قطار میں لگایا۔ هذا درٌّ نسقٌ و کلامٌ نسقٌ وثغرٌ نسقٌ: یہ موتی، گفتگو، اور دانت باترتیب ہیں۔ حروف النسق: حروف عطف۔ النسیق: باترتیب۔

(ن) نسق ـ نسقًا ونسّق ہ: (موتی) لڑی میں پرونا، کو ترتیب سے رکھنا، مرتب کرنا، آراستہ کرنا، نصب کرنا، کو صف بستہ کرنا، کی صف بندی کرنا۔ تنسّق: باترتیب ہونا، ترتیب میں ہونا، مرتب ہونا۔ تناسق: باترتیب ہونا، ترتیب میں ہونا مرتب ہونا، ٹھیک ہونا، ہم پلہ ہونا، مربوط ہونا۔ انتسق: بمعنی تنسّق۔ نسقًا: باقاعدہ ترتیب میں۔ قطار میں، صف میں۔ علی نسق: کے انداز یا اسلوب میں علی نسقٍ واحدٍ: اسی طرح، یکساں، برابر، بلا دقت، بلا رکاوٹ، تنسیق داخلی: اندرونی آرائش۔ منسّق: باترتیب، ہم آہنگ، متناسق: باترتیب، مرتب۔ باقاعدہ، موزوں، مناسب۔

نسک: ا۔ نسک ـ نسکًا ونسکًا ونسکًا ونسوكًا ونسكة و منسكًا الرجلُ: زاہد بنا۔ درویش بنا۔ ـــ للهِ ـــ نسكًا الثوبَ: کپڑے کو دھو کر پاک کرنا۔ ـ الی طریقةٍ جمیلةٍ: پر اچھے طریقہ پر مداومت کرنا۔ ـ البیتَ: گھر میں آنا۔ نسک ـ نساكةً: درویش ہو جانا۔ تنسّک: زاہد و عابد بننا۔ الناسک (فا) جمع نسّاك: عابد، زاہد، النسک (بتثلیث النون): عبادات، خدا تعالی کا ہر ایک حق۔ المنسک: مانوس جگہ۔ النسک: نذر جو اللہ تعالی کیلئے پیش کی جائے۔ ذبیحہ۔ النسک: عبادت، اللہ تعالی کا ہر ایک حق۔ اللہ کیلئے پیش کی جانے والی نذر۔ ذبیحہ، چاندی کے ٹکڑے، خون کہا جاتا ہے: من فعل کذا و کذا فعلیه نسکٌ: جو ایسا کرے گا اس پر خون بہانے کی نذر واجب ہو جائے گی۔ النسیکة: سونا، چاندی۔ النسیكة جمع نسائك: سونے چاندی وغیرہ کا ٹکڑا۔ ذبیحہ۔ المنسك جمع مناسك: مانوس جگہ۔ ـــ والمنسِك جمع مناسِك: قربان کی رسم، قربانی، قربانی کی جگہ۔ مناسك الحجّ: حج کی عبادات۔ المنسوك مفع: ثوبٌ منسوكٌ: پانی سے دھلا ہوا پاک کپڑا۔

۲۔ عشبٌ ناسکٌ: بہت سبز گھاس۔ ارضٌ ناسكةٌ: تازہ بارش والی سرسبز زمین۔ فرسٌ منسوكةٌ: چھوٹے بالوں والی نرم و ملائم گھوڑا۔

(ن) نسک ـُ ونسُک ـُ نساكةً: پر خلوص نیکی زندگی گزارنا، زاہد یا تارک دنیا کی زندگی گزارنا۔ تنسّک: بمعنی نسک ونسُک: نیز نیک مخلص، پارسا، دیندار، پر خلوص ہونا، آخرت پسند ہونا۔ نسك ونسُك ونُسْك: زہد و اتقا، پارسائی، تقوی، خدا ترسی، دینداری، صدق، اخلاص، ترک دنیا، زہد، گوشہ نشینی۔ نُسُکِی: زاہدانہ۔ نُسُک: قربانی، حج کی عبادت۔ ناسِک جمع نُسّاک: تارک الدنیا، گوشہ نشین، زاہد، سنیاسی، جوگی، توبہ و استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں پر نادم، کفارے کے لئے عقوبت نفس برداشت کرنیوالا، دین دار، متقی، پارسا، پرہیز گار، عابد، پجاری، مَنسِک جمع مَناسِک: حجرہ، کٹیا، جھگی، خانقاہ، گوشہ تنہائی، تارک الدنیا کا حجرہ، قربان گاہ، رسم، ارکان عبادت، طریق ادائیگی رسوم یا عبادت خصوصاً حج کے دوران۔

نسل: نسل ـــ نسلاً الصوفَ اوالریشَ: اون یا پر جھاڑنا یا گرانا۔ ـــ الولدَ وبالولد: بچہ جننا۔ ـــ الرجلُ: کثیر الاولاد ہونا۔ ـــ نسولاً الریشُ اوالصوفُ: پر یا اون جھڑنا، گرنا۔ ـــ نسلاً ونسلاً ونسلانًا في مشيه: تیز چلنا۔ انسل الصوفَ اوالریشَ: اون یا پر گرانا۔ ـ الصوفُ: اون گرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ـ الوالدُ الولدَ: والد کا بچہ کا باپ ہونا، پیدا کرنا۔ ـــ ت الدابةُ: جانور کے بال گرنے کا زمانہ قریب آنا۔ ـ في عدوِه: تیز دوڑنا۔ ـــ القومَ: سے آگے بڑھنا۔ تناسل القومُ: بعض کا بعض سے پیدا ہونا، پیدائش سے تعداد میں بڑھنا۔ ـــ بنو فلان: فلاں قبیلہ کا کثیر الاولاد ہونا۔ الناسِل (فا) جمع نُسَّل: تیز رفتار۔ النسل (مص) جمع انسال: خلق، اولاد، ذریت، النسَل (مص): تھن سے خود بخود نکلنے والا دودھ۔ سبز انجیر سے نکلنے والا دودھ۔ النسُل: واحد نسالة: پیدائش پر گرے ہوئے بال یا اون۔ النسّال والنسول: تیز دوڑنے والا۔ النسولة من المواشي: نسل بڑھانے کے لئے حاصل کردہ مویشی، بہت نسل والے مویشی۔ النسیل: گری ہوئی اون یا پر، شہد جو چھتہ سے بہہ نکلے۔ النسیلة: بچہ نسیل کا واحد۔ بتی چھتہ سے بہہ نکلنے والا شہد۔

(ن) نسَل ـــ نسلاً ہ: بچہ کا باپ ہونا، بچہ پیدا کرنا، بچہ کا باپ بننا۔ ـــ ـُ ہ: کو توڑنا، نکالنا، کی دھجیاں اڑانا یا بکھیرنا، کھولنا۔ ـــ نسولاً: بالوں یا پروں کا گرنا۔ نسّل ہ: چیتھڑے ریشوں میں الگ کرنا کو چیتھڑے کر دینا، کو ادھیڑنا۔ انسل ہ: بچہ کا باپ ہونا، باپ بننا، بچہ پیدا کرنا ـــ بالوں یا پروں کا گرنا۔ تناسل: افزائش نسل کرنا، نسل بڑھانا، اولاد پیدا کرنا، بچوں کا باپ بننا۔ ـــ من: کی نسل سے ہونا، سے چلے آنا۔ نسل جمع انسال: آل، اولاد، نسل، بال بچے، اولاد یا نسل۔ تقلیل النسل: منع حمل، خاندانی منصوبہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بندی birth control۔ الحَرثُ والنسل: انسانی تہذیب وتمدن۔ نُسَالة: ریشہ دار ردی، جھالریں، پلو، بن، صوف۔ نَتَّالة: روئی دھنکنے اور صاف کرنے کی کل۔ نَسُولة: بہت نسل والا جانور۔ نَسِيلَة: نئی اشاعت، اِنسال: افزائش نسل۔ تَناسل: افزائش نسل، نسل، پیڑھی، نسلی تسلسل۔ اعضاءُ التناسل: آلات یا اعضاء تناسل۔ ضعف التناسل: نامردی۔ تناسُلِی: پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، افزائش نسل کا یا کے متعلق، توالد وتناسل کے متعلق نسل کے متعلق۔ مرض تناسلی: جماعی مرض۔ تناسُلِیات: آلات تناسل، اعضاء تناسل۔

نسم ۱۔ نَسَمَ ــِ نَسْمًا و نَسِيمًا و نَسَمَانًا تِ الريحُ: ہوا کا آہستہ چلنا۔ ــــ نَسْمًا ونَسِمَ ــَ نَسَمًا الشئُ: متغیر ہونا۔ نَسُمَ ــُ نَسَامَةً المكانُ: جگہ کا بہت چشموں والی ہونا۔ نَسَّمَ النسمةَ: (غلام/لونڈی) کو آزاد کرنا۔ (کسی کو) تقویت پہنچانا، میں روح پھونکنا، جان ڈالنا ــــ الاسيرَ: قیدی کو رہا کرنا۔ تَنَسَّمَ الرجُلُ: سانس لینا۔ ــ ت الريحُ: ہوا کا آہستہ چلنا۔ ــ المكانُ بالطيب: جگہ کا خوشبو سے مہک جانا۔ ــــ فلانٌ العلمَ او الخبرَ: حصول علم یا خبر کی دھن میں لگا رہنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَنَسَّمْتُ منه علماً: میں نے اس سے علم حاصل کیا۔ ــ الريح: بو سونگھنا، بو پانا۔ الولدَ: پیٹ کے بچہ کا جسم پکڑنا اور جاندار ہونا۔

◌ النَاسِم (فا): قریب الموت بیمار۔ النَسَم (مص) جمع انْسَام: زندگی کا سانس بادسحر، بادنسیم، ناک۔ نسمہ کی جمع، دودھ یا چکنائی کی بو۔ النُسْمَة: حمام وغیرہ میں راستے، النَسَمة (طب): مرض ربو، دمہ کہا جاتا ہے: اصابته نَسَمَة: اسے دمہ ہوگیا۔ ــــ جمع نَسَم ونَسَمات: زندگی کا سانس، انسان یا ہر جانور جس میں روح ہے، زندہ ہستی، غلام، لونڈی۔ النسيم (مص) جمع نِسام: پسینہ، روح، نرم ہوا۔ کہا جاتا ہے: هو ثقيل الظلّ بارد النسيم: وہ بھاری ہے۔ النَيْسَم: زندگی کا سانس۔ الأَنَاسِم: لوگ کہا جاتا ہے: مافي او الاناسم مثلُهُ: لوگوں میں اس جیسا کوئی نہیں۔

۲۔ نَسَمَ ــِ نَسْمًا البعيرُ الارضَ بِخُفِّهِ: اونٹ کا زمین پر پاؤں مار کر نشان ڈالنا۔ نَسِمَ ــَ نَسَمًا البعيرُ: اونٹ کے تلوے کا تھک جانا۔ النَسَم: مٹا ہوا راستہ۔ النَيْسَم: مٹا ہوا راستہ۔ المَنْسِم جمع مَنَاسِم للابل: اونٹ کا تلوا، شترمرغ کا پاؤں، نشان، راستہ، رخ کہا جاتا ہے: الى اين منسِمُكَ: کہاں کا رخ ہے! یعنی کدھر جا رہے ہو؟

۳۔ نَسَّمَ في الامر: کام شروع کرنا، معاملہ شروع کرنا۔ نَاسَمَ مُنَاسَمَةً و نِسَامًا ہُ: کے قریب ہونا، نزدیک ہونا، سے کانا پھوسی کرنا، سرگوشی کرنا۔

۴۔ تَنَسَّمَ الجمرُ: چنگاری کا بھڑکنا۔

◌ نَسَمَ ــِ نَسْمًا ونَسَمَانًا: (ہوا کا) آہستہ چلنا۔ نَسَّمَ في: کو شروع کرنا۔ تَنَسَّمَ: (ہوا) کا چلنا، سانس لینا۔ ــ ہ: کو (سانس سے) لینا، کھینچنا، جذب کرنا، (کا) لطف اٹھانا۔ ــ ب: (خوشبو) نکالنا، چھوڑنا، سے خوشبودار ہونا، کی یاد دلانا، کی خوشی ہونا یا دینا۔ تَنَسَّمَ الخبرَ: خبر تلاش کرنا۔ نَسَم جمع انْسَام: سانس، زندگی کا سانس۔ نَسَمَة جمع نَسَمات: سانس، پھونک، دم، کش، مہک، ہوا کا ہلکا سا جھونکا، خوشبو کی لپٹ، بادسحر، نسیم، مہلک، خوشبو، سانس لیتا ہوا جیتا جاگتا، زندہ ہستی، شخص، روح، نفس (جمع نفوس)۔ نَسِيم جمع نِسام ونَسَائم: ہوا کی خوشبو، تازہ ہوا، ہوا، باد، تیز ہوا، بادسحر، نسیم۔ شَمُّ النسيم: مصر کا ایک عوامی تہوار جو پیر کے دن منایا جاتا ہے۔ مَنْسِم جمع مَناسِم: جانوروں کا تلوا، پیر کی گدی۔ مُتَنَسَّم: جگہ جہاں ہوا وغیرہ چلتی ہے، کوئی چیز جو سانس کے ذریعے نکالی یا چھوڑی جاتی ہے یا نکلتی ہے جاری ہوتی ہے یا اس کا ظہور ہوتا ہے یا جہاں پسینہ نکلتا ہے۔

◌ نَسْنَاس ونِسْنَاس جمع نَسَانِس: جنگل کی خیالی مخلوق جس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ ہے۔ بندر

نسو: نَسَا يَنْسُو نَسْوَةً الرجُلُ: کام چھوڑ دینا۔ أَنْسَى إِنْسَاءً هُ الشئَ: کو چیز ترک کرنے کا حکم دینا۔ النَسَا جمع انْسَاء تثنية نَسَوَانِ ونَسَيانِ (ع ا): سرین سے ٹخنے تک جانے والی رگ۔ النَسْوَة (مص): دودھ کا ایک گھونٹ۔ النِسْوَة والنُسْوَة والنِساء والنِسْوان والنِسُون والنُسْنِيْن: عورتیں، مرأة کی جمع نسبت کے لئے نِسْوِيّ ونُسْوِي تصغير نُسَيَّة ونَسَيَّات بھی کہا جاتا ہے۔ المَنْسُو: عرق النساء کی بیماری میں مبتلا۔

نسی: ۱۔ نَسِيَ يَنْسَى نَسًى: عرق النساء میں مبتلا ہونا صفت نَسٍ و انْسَى م نَسِيَة و نَسْيَاء، نَسَى يَنْسِي نَسْيًا الرجُلَ: کی عرق النساء پر مارنا۔ الأُنْسَى (ع ا): ٹانگ کے نچلے حصہ کی ایک رگ۔

marfat.com

۲۔ نَسِيَ يَنْسَى نَسْيًا ونِسْيانًا ونِسَايَةً ونَسْوَةً الشئَ: کو بھول جانا۔ نَسَّى وأَنْسَى الرجُلَ الشئَ: مرد کو کوئی چیز بھلا دینا۔ تَنَاسَى الشئَ: کو بھولنے کا بہانہ کرنا۔ النَسْي والنِسْي جمع أَنْساء: بھولی ہوئی چیز۔ معمولی چیزیں جو قافلہ چھوڑ جائے۔ النَسْيان والنَسَّاء: بہت بھولنے والا۔ النَسِي بہت بھولنے والا، جو شخص اپنی قوم میں شمار نہ کیا جائے۔ المَنْسِي (مفع): بھولی ہوئی (چیز، بات وغیرہ)

۳۔ المِنْسَاة: لاٹھی، (اصل المنسأة (ہمزہ) سے ہے)

◌ نِسوِی ونِسائی: زنانہ، نسوانی، عورتوں کا عورتوں کے متعلق۔ نِسائیات: زنانہ امور، عورت کی دنیا سے متعلق اشیاء۔ نِسائِيَة: مساوات نسواں کی حامی تحریک۔ ماأَنْسَ لاأَنْسَ: میں کبھی نہیں بھولوں گا (لفظی: جو بھی میں بھول سکوں اسے ہرگز نہیں بھولوں گا)۔ ماأَنْسَ لاأَنْسَى، إنْ أَنْسَ فلاأَنْسَى: میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ أَنْسَى ہ ہ: کو کوئی چیز بھلا دینا۔ تَنَاسَى ہ: کو بھولنے کا بہانہ کرنا، کو بھولنا، نظر انداز کرنا، چھوڑ دینا، نہ کرنا، سے غافل ہو جانا۔ نَسْيٌ: فراموشی، بھول، نسیان۔ تغافل، بھولی ہوئی چیز۔ أَصْبَحَ نَسْيًا مَنْسِيًّا: مکمل طور پر فراموش ہو جانا، بھولا بسرا ہو جانا، نَسِي ونَسَّاء ونَسْيَان: بھولنے والا، تغافل شعار، غافل، فراموش کنندہ، نِسيان: مَنْسِي: بھولا ہوا۔ مَنْسِيات: وہ چیزیں وغیرہ جو پہلے کبھی ازبر تھیں اب بھول چکی ہیں۔

نش: ۱۔ نَشَّ ــِ نَشًّا ونَشِيشًا النبيذُ: نبیذ کا کا جوش مارنا۔ الماءُ في الكوز الجديد: پانی کا نئے کوزے میں آواز کرنا۔ اللحمُ: گوشت کا ہانڈی یا کڑاہی میں آواز کرنا۔ النَشِيش (مص): ابلنے پر پانی وغیرہ کی آواز۔

۲۔ نَشَّ ــُ نَشًّا المِسكَ ونحوهُ: مشک وغیرہ کو باریک کرنا۔ ــ الشئَ: کو ملانا۔

۳۔ نَشَّ ــُ نَشًّا الدابَّةَ: جانور کو آہستہ ہانکنا۔ المِنَشَّة: مورچھل (مکھیاں دور کرنے کا)۔

۴۔ نَشَّ ــِ نَشًّا ونَشِيشًا الغديرُ: تالاب کا پانی خشک ہونے لگنا۔ ــــ الرطبُ: تازہ کھجوروں کا پانی خشک ہونا۔ ــــ تِ اللحمةُ: گوشت کے ٹکڑے کا پانی ٹپکنا، عام لوگ برتن میں جو کچھ ہو ٹپک جائے۔ تو کہتے ہیں: نَشَّ الاناء، النَشّ عند العامه: دیوار میں بارش کی وجہ سے نمی۔ النَشَّاش: مبالغہ کا صیغہ، سیاہی چوس، جاذب Blotter, Blotting paper۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اَرْضٌ نَشَّاشَةٌ: شورزمین۔ ارضٌ نِشْشة: نمناک زمین جس میں کچھ نہ اگے۔

۵۔ النَّشّ: ہر چیز کا نصف۔

۶۔ نَشْنَشَ نَشْنَشَةً ت القِدرُ: ہانڈی کا جوش کھاتے وقت آواز کرنا۔ ــــ الشيَ: کو ہٹانا اور زور سے ہلانا۔ ــ الثورَ: بیل کو ہانک کر نکال دینا۔ ــ الرجُلُ: کام میں جلدی کرنا۔ تَنَشْنَشَ: نَشْنَشَ کا مطاوع، تازہ دم ہونا (عام لوگوں کی زبان میں)۔ ــ المريضُ: کی صحت بحال ہونا (عام زبان میں) النَّشْنَشَة (مص): کھڑکھڑاہٹ (زرہوں، کاغذ، نئے کپڑے وغیرہ کی)۔ النَّشْنَاش والنَّشْنَش و النَّشْنِشِي: (کام اور حرکات میں) چست، پھرتیلا۔

۷۔ نَشْنَشَ نَشْنَشَةً الجلدَ: کھال اتارنا۔ الثوبَ: کپڑا اتارنا۔ ــ الوعاءَ: برتن کو جھاڑنا۔ ــ اللحمَ: گوشت جلدی کھانا۔ ــ السَلَبَ: مالِ غنیمت (لوٹ کا مال) لینا۔ تَنَشْنَشَ الشجرَ: درخت کی چھال اتارنا۔ ارضٌ نَشْنَاشَة: کھاری بنجر زمین۔ شورزمین۔

نَشَّ ـِ نَشًّا و نَشِيشًا: تلنے کے وقت چھن چھن کی آواز نکلنا، ابلنا، ابلنے کے قریب ہونا، بلبلے کی آواز پیدا کرنا، کھولتے، جوش کھاتے، سی سی کی آواز پیدا کرنا، پھنکارنا، مکھیاں اڑانا۔ ورق نَشَّاش: سیاہی چوس، جاذب۔ مِنَشَّة: مکھیاں اڑانے کا مورچھل۔

نَشَا: نَشَأَ ــ نَشْوَ ـ نَشْأً و نُشُوءًا و نَشْأَةً و نَشَاءً ونَشَاءَةً الطفلُ: بچہ کا جوانی کو پہنچنا، کہا جاتا ہے۔ نَشَأتُ فی بنی فلان: میں فلاں قبیلہ میں جوان ہوا اور اس میں پرورش پائی۔ اسم النُشُوء۔ ــــ تِ السحابةُ: بادل اونچا ہونا، گھٹا اٹھنا۔ ــ الشئُ: پیدا ہونا، زندہ ہونا۔ نَشَّأَ تَنْشِئَةً ہُ: کو پالنا، کی پرورش کرنا۔ ــ اللّٰهُ السحابةَ: اللہ تعالیٰ کا گھٹا لانا۔ انْشَأَ إنْشَاءً ہُ: کو پالنا۔ ــ الشيَ: کو پیدا کرنا۔ ــ اللّٰهُ الشيَ: کی تخلیق کرنا۔ ــــ اللّٰهُ الخلق: تخلیق شروع کرنا۔ ــ الحديث او الكلامَ: کو وضع کرنا، کی ابتداء کرنا۔ علمُ الإنْشَاء: مضمون نگاری۔ ــــ اللّٰهُ السحابة: خداتعالیٰ کا بادل کو اٹھانا۔ ــ زيدٌ: عمدہ شعر کہنا، یا بہترین خطبہ دینا۔ ــــ فلانٌ دارًا: مکان بنانا شروع کرنا۔ ــــ فلانٌ يضربُ: فلان کا مارنے لگانا۔ ــــ من المكان: جگہ سے نکلنا، کہا جاتا ہے من اين انْشَاتَ: تو کہاں سے نکلا۔ تَنَشَّأَ تَنَشُّوًا الى حاجته: ضرورت کے لئے جانا۔ إسْتَنْشَا إسْتِنْشَاءً فلانًا قصيدةً او خطبةً: سے قصیدہ یا خطبہ کی فرمائش کرنا۔ العَلَمَ فى المفازة: صحرا میں جھنڈا کھڑا کرنا۔ الاخبارَ: خبروں کی حقیقت کا پتہ لگانا۔ ــــ النَاشِئُ جمع نَشْءٌ ونَشَاءٌ و نَاشِئَة: جوانی کے نزدیک پہنچا ہوا لڑکا یا لڑکی۔ ــ جمع نَوَاشِئ: رات کو واقع یا شروع ہونے والی چیز، بات وغیرہ، دن یا رات کا آغاز۔ الناشئة جمع نواشِىء: نَاشئ کا مونث: جوانی کو پہنچی ہوئی لڑکی۔ ـ سونے کے بعد اٹھنا۔ النَشْء (مص) جمع نَشَا: نسل، کہا جاتا ہے۔ هو نشءُ سوء او من نشءِ سوءٍ: وہ بری نسل کا ہے۔ الناشئ کی جمع۔ اونٹ کے چھوٹے بچے۔ اونچا بادل یا بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو۔ النَشْأَة: نباتات کی نازک کونپلیں۔ النَشي: بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو۔ النَشِيئَة: جوانی کی پہنچی ہوئی لڑکی۔ نباتات کی نازک کونپلیں۔ المَنْشَأ: پیدا ہونے کی جگہ، کہا جاتا ہے: مولدی و مَنْشئي فی بنی فلان: میری پیدائش اور جوانی کو پہنچنا فلاں قبیلہ میں ہوا۔ المُنْشَأ و المُسْتَنْشَأ: بلند جھنڈا، بلند نشان راہ۔

نَشَأَ ـَ نَشْوَ ـ نَشْأً و نُشُوءًا و نَشَاَةً: اٹھنا، اوپر (کی طرف) اٹھنا، ظاہر ہونا، برآمد ہونا، نکلنا، نظر آنا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا، وجود میں آنا، ہونا یا ہو جانا پیدا ہونا، ظہور میں آنا، واقع ہونا، اچانک آپڑنا، خلاف توقع پڑ جانا۔ ــ من /عن: کا نتیجہ ہونا، سے نکلنا، سے نکل جانا، سے نتیجہ نکلنا، کے بعد ہونا، سے حاصل کرنا۔ ــ: بڑھنا، جوان ہونا، تکمیل کو پہنچنا، نشوونما پانا، قدرتی طریقے سے نشوونما ہونا۔ نَشَأَ نُشُوًّا ذاتيًا: خود شروع ہونا، خود بخود جلوہ گر ہونا، بیدار ہونا، پیدا ہونا، خود کار از طور پر یا آپ سے آپ واقع ہونا۔ نَشَّأَہ: بچہ کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، پالنا۔ أنْشَأَ ہ: کو اٹھانا، نکالنا، چڑھانا، کو اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا۔ ــــ ہ: کو وجود میں لانا، بنانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، کا باعث ہونا، کی صورت پیدا کرنا، کو تعمیر کرنا، کو پیدا کرنا، کو وجود میں لانا، کو شروع کرنا، کو پانا، کو منظم کرنا، کو قائم کرنا، کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنا، کو لگانا۔ (تحریر کا ٹکڑا ترتیب دینا، مرتب کرنا، لکھنا، (کتاب) لکھنا، بچہ کی پرورش کرنا، بچہ پالنا، کو شروع کرنا۔ تَنَشَّأَ: بڑھنا، تکمیل کو پہنچنا، نشوونما پانا، قدرتی طریقے سے نشوونما ہونا، پھیلنا، جڑ پکڑنا۔ إسْتَنْشَأَ ہ: خبر کی تلاش کرنا، خبر کو ڈھونڈنا، خبر کا سوال کرنا۔ نَشْء: نوجوان، نئی نسل۔ النشءُ الجديد: نوجوان نسل۔ نَشْأَة: بڑھنا، نشوونما، ابتدائی زندگی، نوجوانی، اٹھنا، پیدائش، بناوٹ، ترتیب، آغاز، تخلیق، تکوین، اصل، ابتداء، آغاز، نوجوان نسل، تہذیب، تمدن، ثقافت، شائستگی، تربیت (شخص کا) پس منظر، نَشَأَةٌ مُسْتَأْنَفَة: دوسرا جنم، دوسری بار پیدائش، دوسرا روپ، دوسرا ظہور، کسی چیز کا احیاء، دور ترقی، علوم وفنون کے احیاء کا زمانہ (Renaissance اور Rebirth) نُشُوء: بڑھنا، نشوونما، ارتقا، ترقی، تکمیل، پختگی، بہتر صورت، واقعات کا یکے بعد دیگرے ظاہر ہونا۔ مذهب النشور و الترقی: نظریہ ارتقاء وترقی۔ النشوئيون: ارتقاء ترقی کا نظریہ رکھنے والے۔ مَنْشَأ: ابتداء یا نشوونما کی جگہ، جائے پیدائش، جنم بھومی، وطن، پیدائشی ملک، اصل، ابتداء، اٹھنا، پیدائش، ترتیب، آغاز، منبع، سرچشمہ، جڑ، بنیاد۔ تَنْشِئَة: تربیت، تعلیم۔ انشاء: تخلیق، ابتداء، آغاز، تنظیم، استحکام، کسی کام کی تیاری، تعلیم، تربیت، بناوٹ، ساخت، آراستگی، ترتیب، بنانا، تعمیر، بنیاد، بنیاد رکھنا، تنصیب، تصنیف، تالیف، لکھنا، خطوط لکھنا، لکھنے کا سٹائل یا آرٹ، مختصر مضمون یا مقالہ، رسالہ جو کسی خاص موضوع پر لکھا جائے۔ انشاءات عسكرية: فوجی تنصیبات۔ اعادة الانشاء: دوبارہ تعمیر از سرنو تعمیر، اصلاح تجدید۔ إنْشَائي: ایجادی، تخلیقی، تعمیری، لکھنے یا لکھنے کے انداز سے متعلق، طرز تحریر کے متعلق اسلوب بیان کے متعلق، درست کر کے شائع کرنا، اداریہ سے متعلق۔

نشب: ا۔ نَشِبَ ـَ نَشَبًا و نُشُوبا و نُشْبَةً الشئُ فی الشيء: چیز کا چیز سے چمٹنا یا لگ جانا۔ ــ العظمُ فی حلقه: حلق میں ہڈی چبھنا، کہا جاتا ہے۔ نشبَ فلان مَنْشَبَ سوءٍ: وہ پیچیدہ کام میں پھنس گیا۔ ما نشبتُ افعل كذا: میں نے یہ کام کرنا بند نہیں کیا۔ لم يَنْشَبْ أَنْ مات: اس نے مرنے میں دیر نہ لگائی۔ ــــ نُشُوبًا تِ الحربُ بين القوم: میں گھمسان کی لڑائی ہونا۔ ــــ الامرُ فلانًا: کے ساتھ رہنا۔ ــــ فيه: کو خریدنا نَشَّبَ ہُ فی كذا: کو میں چمٹانا، چسپاں کرنا۔ نَاشَبَ مُنَاشَبَةً ہُ الحربَ: سے کھلم کھلا لڑائی کرنا۔ أنْشَبَ ہُ فی كذا: کو میں چمٹانا، چسپاں کرنا، کہا جاتا ہے أنْشَبَ البازی مخالبه فی الأخِيذَةِ: بازی نے اپنے پنجے شکار میں چمٹا لئے۔ ــ ہ الصَائِدُ: شکار کا جال میں پھنسنا۔ تَنَشَّبَ فيه: میں پھنس جانا، کہا جاتا ہے۔ تَنَشَّبَ فی قلبه حبُّ فلان: کے دل میں کسی کی محبت جاگزیں ہو گئی۔ تَنَاشَبُوا: آپس میں چمٹنا، کہا جاتا ہے: تَنَاشَبُوا حول الرسول: انہوں نے پیغمبر کے گرد بھیڑ کر لی۔ إنْتَشَبَ فيه: میں چمٹنا۔ ــ الحطبَ: لکڑیاں اکٹھی کرنا۔ النَاشِب (فا): تیروں والا، تیرانداز۔ النَاشِبَة: نَاشِب کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مونث، تیز انداز لوگ۔ النَّشَب (ن): درخت جن سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ النَشِب: چمٹا ہوا چسپاں، پھنسا ہوا، گڑا ہوا، پکڑا ہوا۔ النُشْبَة (مص) و النُشَبَة: کام میں پھنس کر رہائی نہ پانے والا۔ نُشْبَةُ: بھیڑے کا اسم علم النَشَّاب: بہت چمٹنے والا، تیر ساز، تیر انداز۔ رجل نَشَّاب و قوم نَشَّابَة: تیر انداز مرد اور قوم۔ النُشَّاب واحد نُشَّابَة جمع نَشَاشِيب: تیر۔ المَنْشَب: چمٹنے کی جگہ۔ بُرْدٌ مُنَشَّب: تیر کی مانند دھاریدار چادر

۲۔ النَشَب و النَشَبة: جائداد منقولہ و غیر منقولہ، زمین اور مویشی۔

○ نَشِبَ ـَ نَشَبًا و نُشْبَةً و نُشُوبا في: سے لگا ہونا، سے جڑا ہونا، چمٹا ہونا، میں پھنس جانا، پہ جما ہونا۔ ـــ ب پر توجہ کرنا، پر منحصر ہونا، موقوف ہونا۔ ـــ في میں پھنس جانا، میں دخل دینا۔ ـــ: جنگ کا یکایک لگ جانا، شروع ہو جانا، پھیل جانا۔ ما نشب یا لم یَنْشَب: نہ ہچکچانا، نہ تذبذب میں پڑنا، نہ متامل ہونا، نہ تامل کرنا۔ نَشَّبَ و انْشَبَ ہ: سے بندھنا، پر چڑھنا، کو چپکانا، جوڑنا، کو لگانا، جڑنا، نَشَب: جائداد، سب کچھ، نشوب الحرب: جنگ کا یکایک لگ جانا، شروع ہو جانا۔ مُتَنَشِّب: سخت اور شدید (معرکہ، جنگ)۔

نشج: نَشَجَ ـِ نَشْجًا و نَشِجًا الباكي: رونے سے ہچکی بندھنا۔ ـــ ت القدرُ: ہانڈی کا کھدکھدانا۔ ـــ الضفدعُ: مینڈک کا ٹراتے وقت آواز دہرانا۔ ـــ المطربُ: گویے کا دو آوازوں کو علیحدہ کرنا اور وقفہ کرنا۔ النشج جمع أنشاج: پانی بہنے کی جگہ، عبرةٌ نُشُجٌ: آواز وار نصیحت۔ النشيج: آواز۔

○ نَشَجَ ـِ نَشِيجًا: سسکیاں بھرنا یا لینا، ہچکی لینا، ہکی بھرنا۔

نشح: نَشَحَ ـَ نَشْحًا و نُشُوحًا الرجُلُ: سیر ہو کر نہ پینا، سیر ہو کر پینا۔ النَشَّاح من الآنية: چھلکتا ہوا برتن۔ النُشُوح: تھوڑا پانی، النُشُح واحد نَشُوح: بدمست لوگ۔

نشد: ا۔ نَشَدَ ـُ نَشْدًا و نِشْدَانًا و نِشْدَةً الضَالَّةَ: گم شدہ کو ڈھونڈنا، آواز دیکر پوچھنا۔ ـــ الضالة: کو واضح کرنا۔ فلانا: کو پہچاننا۔ ـــ ہُ اللّٰهَ وبه: سے قسم لے کر پوچھنا۔ ـــ نَشْدًا الرجُلَ: سے أنشدك الله کہنا۔ نَشَدْتُكَ اللّٰه إلا فعلت: میں نے تم سے کوئی چیز طلب نہیں کی سوائے تمہارے فعل کے۔ نَشَدَهُ عَهْدَهُ او وعْدَهُ: کو اس کا عہد یا وعدہ یاد دلانا اور عہد یا وعدہ ایفائی کا خواہاں ہونا۔ عام لوگ جب هو ينشد فيه کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ نَاشَدَ مُنَاشَدَةً و نِشَادًا ہ: کو قسم دلانا۔ ـــ ہ الامرَ وفي الامر: کو قسم دے کر کسی کام کو کہنا۔ سے کی التجا کرنا۔ انْشَدَ الضالةَ: گم شدہ کے بارے میں پوچھنا، کو واضح کرنا اور کیلئے شہادت پیش کرنا۔ ـــ ہُ الشِعرَ: کو شعر سنانا۔ ـــ بالقوم: کی ہجو کرنا۔ ـــ زیدًا ولِزَيد: زید کو جواب دینا، کہا جاتا ہے: نَشَدتُهُ فأنشدني اوْ أنْشَدَلي: میں نے پوچھا تو اس نے مجھے جواب دیا۔ تَنَشَّدَ الاخبارَ: چاہنا کہ لوگ ان خبروں سے واقف ہو جائیں۔ تَنَاشَدُوا الاخبارَ: ایک دوسرے کو شعر سنانا۔ إسْتَنْشَدَهُ الشِعرَ: سے شعر پڑھنے کی درخواست کرنا۔ الناشِد فا: طلب کرنے والا، تشہیر کرنے والا۔ الناشِدُون: گم شدہ، اونٹوں کا پتہ لگا کر انہیں مالک تک پہنچانے والے۔ النَشْد عند العامة: مدح، تعریف، کہا جاتا ہے نَشْدَكَ ونِشْدَكَ اللّٰه الا فعلتَ: میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہ کام کرنا۔ النِشْدَة (مص): آواز۔ النَشَّاد: گم شدہ کی تلاش کرنے والا۔ النَشِيد: آواز کی بلندی۔ و النَشِيدَة جمع نَشائد و الأُنْشُودَة جمع اَنَاشِيد: مجلس میں سنائی ہوئی نظم۔ نثر و نظم جسے ترنم سے پڑھا جائے۔

۲۔ النُشَادِر و النُوشادِر (ك): نوشادر (فارسی لفظ)

○ نَشَدَ ـُ نَشْدًا و نَشْدَةً و نِشدانًا ہ: کو مانگنا، ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا۔ ـــ ہ ہ (مثلا اللّٰهَ) کو کی قسم دینا، سے قسم یا حلف لے کر یا کا واسطہ دیکر التجاء کرنا۔ نَاشَدَ ہ ان يفعل /ہ ہ: سے کو کرنے کی التجا کرنا۔ ـــ ہ ہ: کو خدا کی قسم دینا یا سے خدا کی قسم یا حلف لینا۔ انْشَدَ ہ: کو مانگنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ ـــ ہ: کو گانا۔ ـــ ہ ہ: کو نظم یا آیت سنانا۔ تَنَاشَدَ: ایک دوسرے کو نظمیں وغیرہ سنانا۔ اسْتَنْشَدَہ: سے شعر یا آیت سنانے کی درخواست کرنا۔ نَشِيد و انْشُودَة جمع نَشَائِد و انْشَادو اَنَاشِيد: گیت، حمد (باری تعالیٰ) ترانہ۔ نَشِيدُ الأَنْشَاد يا نشيدُ الاناشيد: حضرت سلیمان علیہ السلام کا گیت، گیتوں کا گیت۔ النشيدُ الأممي: بین الاقوامی گیت، نشيد حَمَاسِي: جمع ہونے کا گیت۔ نشيدٌ عسكري: سپاہیوں کا گیت، مارچ کا گیت، فوجی مارچ۔ نشيدٌ قومي او نشيدٌ وطني: قومی ترانہ۔ نَشِيدٌ لَيلىٌ: فغانِ نیم شبی، نغمہ شبینہ۔ نَشِيدٌ مَلَكي: شاہی ترانہ۔ مُنَاشَدَة: اصرار وا[illegible]

marfat.com

قسم سوگند یا قسم دینا یا سوگند دینا۔ إنْشَاد: سنانا، سنائی جانے والی چیز۔ نغمہ سرائی۔ مَنْشُود: مانگی ہوئی، تلاش کی ہوئی، ڈھونڈی ہوئی، آرزو کی ہوئی، خواہش کی ہوئی، تمنا کی ہوئی، جسے حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کی گئی ہو (جیسے مقصد مدعا یا ہدف وغیرہ)۔ مُنْشِد: گانے والا۔

نشر: ا۔ نَشَرَ ـُ نَشْرًا الثوبَ: کپڑا پھیلانا۔ ـــ الخبرَ: خبر مشہور کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو بکھیرنا۔ ـــ الخشبَ: لکڑی چیرنا۔ ـــ عن المجنون او المريض: مجنوں یا بیمار پر منتر پھونکنا۔ ـــ ت الريحُ: بادل کے دن ہوا چلنا۔ ـــ نُشُورًا الشجرُ: درخت کا پتے لانا۔ ـــ تِ اوراقُ الشجر: درخت کے پتوں کا بڑھنا اور پھیلنا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا بہار کی بارش کے بعد سرسبز ہونا۔ ـــ نَشْرًا و نُشُورًا اللّٰهُ الموتٰى: اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا۔ ـــ ونَشِرَ الموتى: مردوں کا زندہ ہونا صفت ناشِرُون، نَشِرَ ـــ نَشَرًات المواشي: مویشیوں کا رات کو پھیل کر چرنا۔ مویشیوں میں کھجلی کی بیماری پھیلنا۔ نَشَّرَ الثوبَ ونحوه: کپڑے وغیرہ پھیلانا۔ ـــ عن المريض او المجنون: بیمار یا مجنوں پر منتر پھونکنا۔ أنْشَرَ اللّٰهُ الميّتَ: اللہ کا مردے کو زندہ کرنا۔ ـــ الارضَ: زمین کو پانی سے سیراب کر کے زندہ کرنا۔ تَنَشَّرَ الشيءُ: پھیلنا۔ تَنَاشَرُو الثيابَ: کپڑے پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ إنْتَشَرَ الشيءُ: پھیلنا۔ ـــ النهارُ: دن لمبا ہونا، پھیلنا۔ ـــ الخبرُ: خبر مشہور ہونا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا متفرق ہونا، بکھر جانا۔ الرجُلُ: سفر شروع کرنا۔ إسْتَنْشَرَ الخبرَ: خبر پھیلانے یا شائع کرنے کی درخواست کرنا۔ الناشِرة: الناشر کا مونث (ع ا) النَوَاشِر کا واحد جس کے معنی ہاتھ کے رگ پٹھے ہیں۔ النَشْر (مص): خوشبو یا صرف بو (کہا جاتا ہے: له نشرٌ طَيِّبٌ: اُس سے خوشبو آتی ہے)۔ نباتات اگنے کی ابتداء، خارش، سردار کے بغیر بکھری ہوئی قوم۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا نَشْرًا: وہ علیحدہ علیحدہ آئے۔ يومُ النَشْر: قیامت کا دن۔ النَشَر: سردار کے بغیر بکھری ہوئی قوم (کہا جاتا ہے: جاؤ و انَشَرًا: وہ متفرق آئے)، پھیلا ہوا، کہا جاتا ہے۔ اللّٰهُمَّ اُضمم نَشَرِي: اے اللہ تعالیٰ میرے متفرق کام اکٹھے کر دے۔ النَشْرَة جمع نَشَرات: نشر کا اسم مرۃ اشتہار، بادنسیم۔ النُشْرَة: افسوں منتر۔ النُشَارَة: لکڑی وغیرہ کا برادہ۔ النَشُور من الرياح جمع نُشُر: بادلوں کو پھیلانے والی ہوا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

النُّشُور (مص): یومُ النشور: یوم القیامۃ۔
النِشِیر ازار، کاٹ کر جمع کردہ کھیتی۔ المُنْشَر (مصدر میمی) کپڑے وغیرہ پھیلانے کی جگہ۔
المِنْشار پنجہ دار لکڑی جس سے گیہوں وغیرہ کو بھوسے سے علیحدہ کرتے ہیں۔ (ح) حیلی ایک سمندری مچھلی اس کو ابو منشار بھی کہتے ہیں۔ جمع مناشیر آری۔
المنشور (مفع) شاہی فرمان، سرکلر، بڑے عالم پادری وغیرہ کا پیغام۔ المَنْشُورۃ منشور کا مونث، تخی شریف۔ (عورت)

۲۔ التناشِیر مدرسوں کے بچوں کی شکستہ تحریریں (اس کا واحد نہیں)

۞ نشرَ ـُ نَشْرًا ہ کو پھیلانا، کھولنا، (جھنڈا) بلند کرنا۔ ـــ ـِ ہ (خوشبو) پھیلانا، کو بکھیرنا، نکالنا، چھوڑنا، کی نشر و اشاعت کرنا، (کتب، اشتہار وغیرہ) شائع کرنا، کی اشاعت کرنا، پھیلانا۔ ـــ ـُ نَشرًا و نُشورًا ہ (مردہ) کو زندہ کرنا۔ نَشَّر ہ کو پھیلانا، کھولنا۔ أَنشرہ: (مردہ) کو زندہ کرنا۔ تَنَشَّرَ پھیلایا جانا، کھولا جانا۔ پھیلنا۔ اِنْتَشَرَ پھیل جانا، کھولا جانا، پھیلنا (جیسے خبر یا بیماری وغیرہ) پھیلنا، لمبا ہونا، وسیع ہونا، کشادہ ہونا، لہروں کا پھیلنا، منتقل ہونا، بکھرنا، پھیلنا، منتشر ہونا، پراگندہ ہونا، مختلف سمتوں میں جانا، گڑبڑ میں پڑنا۔ نَشْر الدعوۃ پراپیگنڈا، یوم النشور یوم قیامت۔ دار النشر اشاعتی ادارہ۔
نشرۃ (پبلک) نوٹس، شائع شدہ کتاب، باضابطہ اعلان، رپورٹ، سرگزشت، کیفیت، تفصیل، اعلان، اشتہار، سرکلر، دستی اشتہار، اداری اشتہار، پمفلٹ، رسالہ، موقت الشیوع چیز (جیسے اخبار، رسالہ) (Periodical) حکم، فرمان (Ordinance, (decree, edict نشرۃ اخباریۃ یا نشرۃ الاخبار خبریں، (ریڈیو پر خبریں پڑھنا) نشرۃ دَوْرِیَۃ ہفتہ وار، ماہوار یا سہ ماہی رسالہ، مجلّہ، نشرۃ اسبوعیۃ ہفتہ وار رسالہ، اخبار، نیوزریل News Reel یعنی روزانہ خبروں کی فلم، نشرات جویۃ: موسمی خبریں، موسمی رپورٹ۔ نشرۃ خاصۃ بالأسعار کیفیت نامہ (Prospectus)، قیمتوں کی فہرست۔
نشرۃ رسمیۃ: سرکاری کتاب بلٹین: اعلامیہ، سرکاری خبرنامہ (Bulletin) نشرۃ شہریۃ ماہوار مجلّہ، کتاب، نشرۃ یومیۃ (فوج) دن کا حکم۔
نشّار آرہ کش، لکڑیاں چیرنے والا، نِشارۃ چیرنا (چیرنے کا عمل) نُشارۃ لکڑی کا برادہ۔ نُشور، مردہ کو زندہ کرنا، قیامت۔ یوم النُّشور قیامت کا دن۔ مِنْشار: آرہ، آری جمع مناشیر انتشار: پھیلنا، پھیلاؤ، بہاؤ، پھیلا ہوا ہونا۔ ناشِر: ناشر کتب، کتابیں، چھاپ کر شائع کرنے والا۔ مَنْشُور: پھیلا ہوا، اعلان کیا ہوا، شائع شدہ، چیرا ہوا جمع مَنْشُورات و مَناشِیر: دستی اشتہار، پمفلٹ، سرکلر، کیفیت نامہ، اعلان، اشتہار، حکم، فرمان (Ordinane, decree, edict)، منشور (مخروط مستوی)۔ مُنتَشِر: پھیلنے والا، پھیلا ہوا، دور تک پھیلا ہوا، تازہ، حالیہ، عام پھیلا ہوا، بکھرا ہوا، رائج، عام رواج پذیر، اہم، نمایاں، بااثر۔

نشز: نَشَزَ ـُ نَشْزًا فی او عن مکانہ: سے بلند ہونا، رکنا۔ الرجلُ: اونچی جگہ پر جھانکنا، بیٹھے ہوئے کا اٹھنا۔ ـــ القومُ فی مجلسھم مجلس میں لوگوں کا اٹھ جانا یا سمٹ جانا۔ ـــ ت نَفْسُہُ: گھبراہٹ سے کا دل دھڑکنا۔ ـــ نُشُوزًا بالقوم فی الخصومۃ: جھگڑنے کے لئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، تائید کرنا۔ ـــ ت المرأۃُ بزوجھا ومنہ و علیہ: عورت کا اپنے خاوند کا نافرمان ہونا اور اس سے نفرت کرنا صفت ناشِز و ناشِزۃ جمع نَواشِز ـ بعلُھا علیھا و منھا خاوند کا عورت پر ظلم کرنا اور تکلیف دینا۔ ـــ نَشْزًا بقرنِہ کو سینگ سے اٹھا کر پچھاڑ دینا۔ أَنْشَزَ الشیءَ چیز کو اس کی جگہ سے اٹھانا، بلند کرنا۔ ـــ اللّٰہُ عظامَ المیت: اللہ تعالیٰ کا مردے کی ہڈیوں کو ان کی جگہ لیجانا اور ایک دوسرے سے جوڑنا۔ الناشِز (فا): اپنی جگہ سے ابھرا اور اٹھا ہوا عِرقٌ ناشِز: دھڑکنے والی رگ۔ النَشْز (مص) جمع نُشوز و النَشَز جمع نِشاز و أَنْشاز اونچی جگہ۔ ـــ من الرجال قوی بڑے ڈیل ڈول کا موٹا آدمی۔ النَشاز: اونچی جگہ۔ النَشْزۃ و النَشِیزۃ من الدواب سواری جس کی پیٹھ پر زین یا سوار نہ ٹھہر سکے۔

۞ نَشَزَ ـُ نشوزًا ب / علی / من (عورت کا) اپنے خاوند کی پروانہ کرنا، خاوند کی نافرمان ہونا۔ شوہر کا بیوی پر ظلم کرنا۔ أنشَزَ ہ کو دوبارہ زندگی دینا، میں جان ڈالنا، میں نئی روح پھونکنا۔ نشز جمع انشاز اونچی جگہ یا زمین۔ نَشاز: نااتفاقی، ناچاقی، نُشوز: خصومت، دشمنی، بیر، عداوت، لڑائی، جھگڑا، ناچاقی، نااتفاقی، نفرت، شوہر یا بیوی کی طرف سے خصوصاً بیوی کی طرف سے ازدواجی فرائض کی خلاف ورزی اور شوہر کی طرف سے اس پر ظلم۔ ناشِز: ابھرا ہوا اونچا کیا ہوا، اٹھایا ہوا، اعصاب میں ارتعاش پیدا کرنے والا، کرخت، بے جوڑ، ناموزوں، ناموافق، سرکش، نافرمان۔ ناشِزۃ جمع نَواشِز: سرکش، نافرمان، عورت، لڑاکا عورت، بدمزاج عورت۔

نشص: ۱۔ نَشَصَ ـُ نُشُوصًا السحابُ: بادل کا اونچا ہونا۔ ـــ ت النفسُ: دل دھڑکنا۔ ـــ الصوفُ او الشَعَرُ اون یا بال کا نکلنا اور جلد سے چمٹا ہوا ہونا۔ ـــ المرأۃُ عن زوجھا: بیوی کا خاوند کی نافرمانی کرنا اور اس سے نفرت کرنا صفت ناشِص۔ ـــ ت السِّنُّ: دانت کا لمبا ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو نکالنا۔ ـــ عن بلدہ: شہر یا ملک سے منقطع ہونا، پریشان ہونا۔ نَشَّصَ ہُ: کو اونچا کرنا۔ أَنْشَصَ ہ عن بلدہ ادبیتہ کو شہر یا گھر سے نکال دینا۔ تَنَشَّصَ لکذا کیلئے اٹھنا اور تیاری کرنا۔ أَنْشَصَ الشجرۃَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اِسْتَنْشَصَتِ الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اٹھانا۔ النِشاص و النَشاص جمع نُشُص ونَشائص: تہہ بتہ بادل، لشکر۔ النَشُوص و النَشِیص: کھڑا کیا ہوا نیزہ، بڑے کوہان والی اونٹنی۔

۲۔ نَشَصَ ـُ نَشْوصًا فلانًا: کو نیزہ مارنا۔

نشط: ۱۔ نَشَطَ ـُ نَشْطًا الحبلَ: رسی میں گرہ لگانا۔ ـــ العقدۃَ: گرہ کو مضبوط کرنا۔ ـــ الدلوَ من البئر: ڈول کو کنویں سے بغیر چرخی کے نکالنا۔ ـــ زیدا: کو نیزہ مارنا۔ ـــ تہ الحیّۃُ: کو سانپ کا ڈسنا۔ ـــ ـِ نَشْطًا من المکان: جگہ سے نکلنا۔ ـــ من بلد إلی بلد: ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جانا، کہا جاتا نَشَطَ بھم یُمْنَۃً ویُسْرَۃً: وہ انہیں دائیں بائیں لے گیا۔ نَشِطَ ـَ نَشاطًا: چست ہونا، ہشاش بشاش ہونا۔ فی عملہ او إلی عملہ: اپنے کام پر دوڑنا، دوڑ پڑنا۔ صفت ناشِط ونَشِیط۔ ـــ تِ الدابّۃُ: جانور کا فربہ ہونا۔ نَشَّطَ الحبلَ: رسی میں گرہ لگانا۔ ـــ ہُ إلی او فی عملہ: کو کام پر دوڑانا، کام میں چست بنانا۔ أَنْشَطَ ہُ: کو چست بنانا۔ ـــ الرجلُ: چست چالاک گھر والوں یا جانوروں والا ہونا۔ ـــ ت الحیّۃُ: سانپ کا کاٹنا۔ ـــ الحبلَ: رسی میں گرہ لگانا۔ ـــ العقدۃَ او العقالَ: گرہ کھولنا، جانور کو باندھنے والی رسی کھولنا۔ ـــ البعیرَ من عقالہ: اونٹ کو چھوڑنا، آزاد کرنا۔ ـــ الکلاءُ الدابّۃَ: گھاس کا جانور کو موٹا کرنا۔ تَنَشَّطَ: چست ہونا، ہشاش بشاش ہونا۔ ـــ للعمل: چستی سے تیار ہو کر کام میں لگنا۔ ـــ ت الناقۃُ فی سیرھا: اونٹنی کا چلنے میں تیزی کرنا۔ ـــ المفازۃَ: بیابان کو چستی سے عبور کرنا۔ اِنْتَشَطَ الحبلَ: رسی کو کھولنے کے لئے کھینچنا۔ ـــ الحبلُ: رسی کا کھل جانا۔ ـــ الشیءَ: کو مضبوط کرنا، چھیننا۔ ـــ فلانا إلی کذا کو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کی طرف کھینچنا یا بلند کرنا۔ ــــ النَشِیطَة: راستہ میں ہاتھ لگ جانے والا مال ہانک لیجانا۔ ـ الحیَّةُ فلانا: کو سانپ کا ڈسنا۔ اِسْتَنْشَطَ الجلدُ: کھال کا جھری دار ہونا۔ الناشِط (فا) چست، پھرتیلا، پھرنے والا جنگلی بیل، طریقٌ ناشطٌ بڑی سڑک سے دائیں یا بائیں نکلنے والا راستہ۔ الناشِطة جمع ناشطات ونَواشِط ناشط کا مونث۔ النواشط من المسائل: بڑے مسئلہ سے نکلتے ہوئے مسائل، اس کا واحد ناشط آتا ہے۔ النَشْط (مص) تیزی وعجلت سے ڈنک مارنا۔ النَشِیط جمع نِشاط ونَشَاطی: چست، پھرتیلا، چست و چالاک گھر والوں یا جانوروں والا۔ النشِیطة: نشیط کا مونث، حملہ آوروں کو راستہ میں مل جانے والا مال غنیمت، اونٹ جنہیں پکڑ کر ہانک لیجایا جائے ــ بئرٌ نَشوطٌ گہری تہہ والا کنواں۔ ــ بئرٌ اَنشاط و اِنشاط کم گہرائی کا کنواں کہ ایک ہی بار کھینچنے سے ڈول باہر نکل آئے۔ الأُنْشُوطَة جمع اَناشِیط گرہ جسے کھولنا آسان ہو۔ کہا جاتا ہے۔ ما عِقالُکَ بِاُنْشُوطَةٍ تمہاری محبت (یا دوستی) کمزور نہیں کہ آسانی سے ختم ہو جائے (یا ٹوٹ جائے) المِنْشط: بہت چست۔ المَنْشَط: خوش دل، کہا جاتا ہے: فَعَلُوا ذلک علی المَنْشَط والمَکْرَہ: انہوں نے یہ کام خوش دلی سے اور دل کی کام کے بارے میں ناپسندیدگی سے کیا۔

۲۔ النَشوط (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

۳۔ نَشِطَ ـ نَشاطاً: زندہ دل، بشاش، شگفتہ، مزاج، پرزور، پرلطف، چست، پھرتیلا، تیز، خوش طبع، شگفتہ خاطر جاندار، تیز طرار، سرگرم، ہوشیار، شائق، خواہاں، متمنی، پرجوش، بہادر یا خوش باش ہونا۔ ــــ فی (کسی کام میں) ہمت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ ــ الی (کے لئے، کی جانب) سرگرم اور پھرتیلا ہونا، ہمت اور سرگرمی سے کام کرنا ــــ کے موڈ میں ہونا، کچھ کرتے ہوئے محسوس کرنا، کے بارے میں خوش ہونا، سرگرم ہونا، پرجوش ہونا، کسی کام میں شوق سے مشغول ہونا، پر سرگرمی سے توجہ کرنا، کا تیزی سے آغاز کرنا۔ نشط من عِقالِہ: کی بیڑیوں سے آزاد ہونا، آزاد ہونا۔ نَشَطَ ـ نَشْطًا ہ: رسی میں گرہ لگانا، رسی کو گرہ لگانا۔ نَشَّطَ و اَنشَطَ ہ: کو ابھارنا، اکسانا، کو ایڑ لگانا، مہمیز کرنا، میں جان ڈالنا، کو ابھارنا، میں تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا، کو تابکار بنانا۔ ــــ ہ: کو مضبوط کرنا، تقویب پہنچانا، میں جان ڈالنا، روح پھونکنا، کو تولنا، کو عطا کرنا، ہمت دینا، کو ہمت اور طاقت دینا، کی حوصلہ افزائی کرنا، کی ہمت بندھانا، کو جرأت دلانا (الی کچھ کرنے کی)۔ تَنَشَّطَ: بمعنی نَشِطَ۔ نَشِط: زندہ دل، بشاش، شگفتہ مزاج، پرزور، پرلطف، چست، پھرتیلا، تیز، خوش طبع۔ شگفتہ خاطر، تیز، ہیجان خیز، پرجوش، سرگرم، دوڑ دھوپ کرنے والا، منہمک، مصروف، مشغول، دلیر، جانباز، من چلا، مہم جو، باہمت، مستعد، زوردار۔ نَشْطَة: قوت، شوق سرگرمی، گرم جوشی۔ نَشاط: چستی، پھرتیلا پن، تیزی، زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، جذبہ جوش، چستی، پھرتی۔ آمادگی، مستعدی، شوق، سرگرمی، گرمجوشی، لگن، دھن، جوش، ہمت، طاقت، کس بل، دم خم، مستعدی، سرگرم حرکت، جوش مستعدی، عمل، کام، چال، حرکت، عمل، طاقت، طاقت، زور، قوت، بل، قابلیت و صلاحیت اہلیت، توانائی، دم خم، زور، قوت، نہایت اہم طاقت، کسی فرد یا ادارے کی قوت کارکردگی۔ نِشاط جوّی: ہوائی سرگرمی۔ نشاط اشعاعی: تابکاری۔ دو نشاط إشعاعی: تابکار صاحب نشاط: سرگرم، عدیم النشاط: ماند، سرد، پھیکا، سست، بے حرکت، بے عمل (سٹاک مارکیٹ)۔ نَشِیط جمع نِشاط: چست پھرتیلا، تیز، زندہ دل، بشاش، شگفتہ مزاج، خوش باش، جاندار، تیز طرار، پرزور، پرلطف، شادمان، خوش، ہنس مکھ، ہیجان خیز، پرجوش، دوڑ دھوپ کرنے والا، مصروف، مشغول، منہمک، سرگرم، توانا، طاقت ور، باہمت، مستعد۔ ــ ل کے بارے میں خوش، مسرور، سرگرم، پرجوش، کے لئے سرگرمی سے وقف کار، الجنس النشیط: زیادہ طاقت ور جنس یا صنف۔ اُنشُوطَة: گرہ، ڈیڑھ گرہ جو کھینچنے سے تنگ ہوتی ہے (Slipknot) کمان، پھندا۔ نَاشِط بمعنی نَشِط: مُنْشَط: خوشگوار چیز۔ مُنَشِّط: مہمیز (کیلئے) تحریک، محرک یا مہیج، شوق، جذبہ، قوت، تیزی حرکت، کا زور تحریک، اشتعال، ابھارنے والی چیز۔

نشظ: نَشَظَ ـ نُشُوظًا النباتُ: نباتات کا نمودار ہونا۔

نشع: ا۔ نَشَعَ ـ نَشْعًا الرجُلُ: سسکی لینا۔ ـ الطیبَ: خوش بو سونگھنا۔ ــــ فلانا الدواءَ: کے منہ میں دوا ڈالنا۔ ــ ہ الکلامَ: کو کلام کی تلقین کرنا۔ ـ نُشُوعًا: قریب الموت ہو کر نجات پانا۔ اَنْشَعَ ہُ الدواءَ: کے میں دوا ڈالنا۔ ــ ہُ الکلامَ: کو کلام کی تلقین کرنا۔ ــ ہُ بشربۃٍ: کو پانی پلانے میں مدد کرنا۔ اِنْتَشَعَ: ناک میں دوا ڈالنا۔ الناشِع (فا) ابھرا ہوا۔ النَشَع خراب منہ کا پانی۔ النَشُوع [illegible] میں ڈالی جانے والی دوا۔ [illegible]

المِنْشَع والمِنْشَعة: وہ برتن جس میں ناک یا منہ میں ڈالنے والی دوا رکھی جاتی ہے۔ نسوار کی [illegible]

۲۔ نَشَعَ ـ نَشْعًا و اِنتَشَعَ الشیَ: چیز کو سختی سے کھینچنا۔ النُشاعة: ہاتھ سے نکال کر پھینکی ہوئی چیز۔

۳۔ نُشِعَ نَشْعًا بکذا: کا مشتاق ہونا، فریفتہ ہونا صفت مَنْشُوعٌ بہ:

۴۔ نَشَعَ ـ نَشْعًا ہ: کو چیرنا، پھاڑنا، چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا انتشع: مندرجہ بالا معانی۔ نَشْع: رسنے والا پانی، رس کر آنے والا پانی وغیرہ مُنَشَّع: تر اور تر بتر، سیلی (زمین) گیلا، بھیگا ہوا، تر۔

نشغ: ا۔ نَشَغَ ـ نَشْغا ہُ الکلامَ: کو کلام کی تلقین کرنا اور کلام سکھانا۔ ــــ الصبیَ: بچے کے منہ میں دوا ٹپکانا۔ ــــ الماءَ: روک سے پانی پینا۔ ــــ الرجُلُ: سسکی لینا یہاں تک کہ بیہوشی کے قریب ہو جانا۔ نُشِغَ الصبیُ: بچہ کے منہ میں دوا کا ڈالا جانا۔ نَاشَغَ الکلامَ: کلام سمجھنا اور سیکھنا۔ اَنْشَغَ ہُ الکلامَ: کو کلام سمجھانا، کی تلقین کرنا۔ تَنَشَّغَ: سسکی لینا یہاں تک کہ بے ہوشی کے قریب ہو جانا۔ ــــ وانتشغ الکلامَ: کلام سمجھنا، سیکھنا۔ النَشْغَة جمع نَشَغَات: موت کے وقت ہچکی، لمبی سانسوں میں سے ایک سانس۔ النَشُوغ: بچہ یا مریض کے منہ یا ناک میں ٹپکانے والی دوا۔ نسوار۔ المِنْشَغ و المِنْشَغَة: برتن جس میں منہ اور ناک ٹپکانے کی دوا رکھی جاتی ہے۔

۲۔ نَشَغَ ـ نَشْغًا الماءُ: پانی کا بہنا۔ اَنْشَغَ عنہ: سے علیحدہ ہونا۔ النَاشِغ جمع نُشَّغ م ناشِغة جمع نَوَاشِغ ونَاشغات (فا)، النَوَاشِغ: وادی میں پانی بہنے کے راستے۔

۳۔ نَشَغَ ـ نَشْغًا ہُ بالرمح: کو نیزہ مارنا

۴۔ نُشِغَ بالشیءِ: کا مشتاق ہونا صفت مَنْشُوغٌ بہ

نشف: ا۔ نَشَفَ ـ نَشْفًا الثوبُ العرقَ والحوضُ الماءَ: کپڑے کا پسینہ کو اور حوض کا پانی کو جذب کر لینا۔ ــ الماءُ فی الارض: پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ ــ ـِ نَشْفًا الماءَ: پانی کو چیتھڑے وغیرہ سے پونچھنا خشک کرنا۔ نَشِفَ ـــ نَشْفًا الثوبُ العرقَ او الحوضُ الماءَ: کپڑے کا پسینہ کو اور حوض کا پانی کو جذب کر لینا۔ ــ الماءُ فی الارض: زمین میں پانی کا جذب ہونا۔ ــ ت البئرُ: کنویں کا پانی ختم ہونا۔ ــ الثوبُ: کپڑے کا خشک ہونا۔ نَشَّفَ الماءَ: پانی کو جذب کرنا۔ ــ ت الناقةُ: اونٹنی کا بچہ پیدا ہونے کے قریب زمانہ میں تھنوں کا کبھی بھرا ہوا ہونا اور کبھی خشک ہونا صفت مُنَشِّف۔ تَنَشَّفَ الثوبُ العرقَ [illegible]

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کپڑے کا پسینہ کو جذب کر لینا۔ ـــ الرجلُ کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ سے پانی کو بدن سے پونچھنا۔ إِنْتَشَفَ الوسخ ونحوہٗ: میل گندگی وغیرہ کو پونچھ کر دور کرنا۔ الخبزُ الناشِف عند العامة: خشک روٹی۔ النَشَف. پانی کا جذب ہونا۔ النَشْفة (بتثلیث النون) والنَشَفة جمع نُشَف ونِشَف ونَشَف ونُشُف ونِشاف: جھاواں۔ النُشافة والنُشّافة: برتن میں باقی رہنے والی تھوڑی چیز۔ النَشْفة والنَشّافة: پانی پونچھنے کا کپڑا۔ جھاڑن۔ ارضٌ نَشِفةٌ: پانی جذب کر لینے والی زمین۔ النُشافة: جذب شدہ پانی۔ المِنْشَفة جمع مَناشِف: تولیہ۔

۲۔ نَشَفَتِ الناقةُ: اونٹنی کے دودھ کا جھاگ والا ہونا۔ أَنْشَفَ هٗ: کو جھاگ والا دودھ پلانا۔ إِنْتَشَفَ: جھاگ والا دودھ پینا۔ النُشْفة جھاگ جو دودھ دوہتے وقت دودھ پر آ جاتی ہے۔، ہانڈی سے گرم گرم نکالی ہوئی چیز۔ النُشافة: بمعنی النُشْفة۔

○ نَشَفَ ـــ نَشْفًا ه کو جذب کرنا، چوسنا، نَشِفَ ـــ نَشَفاً خشک ہونا۔ نَشَّفَ ه کو خشک کرنا، پونچھ کر خشک کرنا، رگڑ رگڑ کر خشک کرنا، نَشَفَ ریقهٗ: کوشش کرنا، زور لگانا، جدوجہد کرنا، سخت محنت کرنا، کو دق کرنا، تنگ کرنا، کا ناک میں دم کرنا، کو جان بوجھ کر چھیڑنا۔ تَنَشَّفَ بمعنی نَشِفَ نیز پونچھ کر خشک ہونا، خشک ہونا۔ نَشْف سوکھا ہوا ہونا، سوکھنا، خشک ہونا، سکھانا، خشک کرنا، نَشْف سوکھا ہوا ہونا، سوکھنا، خشک ہونا، سکھانا، خشک کرنا۔ نَشّاف: بلاٹنگ پیپر (Blotting paper) جاذب۔ نَشّافة: سیاہی چوس، بلاٹنگ پیپر کی شیٹ، بلاٹنگ پیڈ (Bloting pad) تولیہ۔ مِنْشَفة جمع مَناشِف: تولیہ، صفائی کا چیتھڑا، دستپاک، رومال، تنشیف: خشک کرنا۔ ناشِف: سکھایا ہوا، رطوبت نکالا ہوا، خشک کیا ہوا، خشک، سخت۔

نشق ۱۔ نَشِقَ ـــ نَشْقًا ونَشَقًا الریحَ: ہوا یا بو سونگھنا۔ أَنْشَقَهُ المِسْكَ ونحوہٗ: کو مشک وغیرہ سونگھانا۔ ـــ هُ النَشُوقَ: کو نسوار سونگھانا۔ تَنَشَّقَ الماءَ فی انفه: ناک میں پانی ڈالنا۔ ـــ الریحَ او النَشُوقَ: ہوا یا بو یا نسوار سونگھنا۔ إِنْتَشَقَ الماءَ فی انفه: پانی ناک میں ڈالنا۔ إِسْتَنْشَقَ الماءَ فی انفه: ناک میں پانی ڈالنا۔ ـــ الریحَ او النَشُوقَ ہوا یا نسوار سونگھنا۔ النَشْق والنَشَق سونگھنا، کہا جاتا ہے۔ رائحة مکروهةُ النَشَق: ناگوار بو۔ النَشُوق: نسوار، سونگھنے کی دوا۔ المَنْشَق جمع مَناشِق: ناک۔ المَنْشَقة: نسوار کی ڈبیا۔

۲۔ نَشِقَ ـــ نَشْقًا و نَشَقًا فی الحِبالةِ: پھندے میں پھنسنا۔ أَنْشَقَ الظبيَ في الحبالة: ہرن کو جال میں پھنسانا، کہا جاتا ہے۔ أَنْشَقَتْهُ الحبالةُ: پھندے نے اسے پھنسا لیا۔ النَشِق: کسی کام میں پھنس کر چھٹکارا نہ پانے والا۔ النُشُقَة جمع نُشَق: بکری وغیرہ کی گردن کا پٹہ۔

○ نَشِقَ ـ نَشْقًا ونَشَقًا ه کو سونگھنا۔ باس کھینچنا، ناک سے سڑکنا، ناس لینا، اندر کو سانس لینا، کھینچنا، کو ناک میں لیجانا، زور سے سانس لیکر اندر پہنچانا۔ نَشَّقَ و أَنْشَقَ ہ ه کو کچھ دینا، کو کچھ سونگھانا، کو کچھ اندر پہنچوانا۔ تَنَشَّقَ و إِنْتَشَقَ: سانس لینا، سانس اندر کو کھینچنا۔ ـــ ه کو زور سے سانس لیکر اندر پہنچانا، کو ناک میں لیجانا۔ إِنْتَشَقَ الهواء تازہ ہوا لینا إِسْتَنْشَقَ بمعنی نَشِقَ نیز اِسْتَنْشَقَ ه کا تجسس کرنا، کو تلاش کرنا، بھانپ لینا، نَشْق و تَنَشُّق و إِسْتِنشاق: جذب کرنا، سانس لینا، سانس اندر کو کھینچنا، کش لگانا۔ نَشُوق ونُشُوق: ناس، نسوار۔ تنشیقة: نسوار کی چٹکی۔

نشل ۱۔ نَشَلَ ـ نُشُولاً الرجلُ: آدمی کا دبلا ہونا۔ ـــ ت الفخذُ: ران کا دبلا ہونا۔ ـ نَشْلاً الشئَ: چیز کو جلدا چک لینا، چھین لینا۔ الخاتمَ: انگوٹھی نوچنا، جھٹکا دیکر کھینچنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو بغیر چمچے کے ہاتھ سے نکالنا، گوشت بغیر مسالہ کے پکانا۔ أَنْشَلَ اللحمَ من القدر: گوشت کو ہانڈی سے نکالنا۔ ـــ ما علی العظم بفیه: منہ سے ہڈی پر سے گوشت چھڑا کر کھانا۔ إِنْتَشَلَ اللحمَ من القدر: گوشت کو ہانڈی سے نکالنا ـــ ما علی العظم بفیه: منہ سے ہڈی پر سے گوشت چھڑا کر کھانا۔ النَشْل (مص): بغیر مسالہ پکایا ہوا گوشت۔ النَشّال: ہانڈی سے گوشت کو بغیر چمچے کے ہاتھ سے نکالنے کا عادی۔ النَشِیل: کنویں سے پہلا نکالا ہوا پانی، عام لوگ کہتے ہیں ماء نَشِیل: کنویں سے پہلا نکالا ہوا پانی تھن سے تازہ نکالا ہوا دودھ، بغیر چمچ ہاتھ سے ہانڈی میں سے نکالا ہوا گوشت، بغیر مسالہ کے پکایا ہوا گوشت، پتلی تلوار۔ المِنْشَل و المِنشال جمع مَناشِل: گوشت نکالنے کی کنڈی دار سیخ۔ المُنْشُلَة انگلی کا وہ حصہ جو انگوٹھی کے نیچے ہو۔

۲۔ نَشَلَ ـــ نُشُلاتَ الحیّةُ الرجلَ: سانپ کا آدمی کو ڈسنا۔

○ نشل ـ نَشْلاً ه کو لیجانا، چھیننا، چرانا، چوری کرنا۔ ـــ ہ: کو خطروں مشکلات وغیرہ سے نکالنا، آزاد کرانا، چھڑانا، بچانا۔ إِنْتَشَلَ نکالنا، اٹھانا، اوپر کی طرف بلند کرنا، (تباہ شدہ جہاز کے لوگوں کو) جمع کرنا اٹھا کر کھڑے کرنا، کو بچانا، چھڑانا۔ نَشْل: جیب تراشی نَشّال: جیب تراش۔

نشم: نَشِمَ ـ نَشَمًا الثورُ: بیل کا سیاہ سفید داغوں والا ہونا صفت نَشِم نَشِمَ اللحمُ: گوشت کا بگڑ کر بدبودار ہونا۔ ـــ اللهُ ذکرَ فلان: اللہ تعالیٰ کا کسی کے ذکر کو بلند کرنا، کو شہرت دینا۔ ـــ ت الارضُ: زمین سے پانی کا نکلنا۔ ـــ فی فلان: کی بدگوئی کرنا، کو طعن کرنا۔ ـــ فی الشرّ: شرارت میں پڑنا۔ ـــ فی الامر: کام شروع کرنا۔ تَنَشَّمَ فی الامر: کام شروع کرنا۔ ـــ منهُ علماً: سے علم حاصل کرنا، کہا جاتا ہے: یدی نَشِمَةٌ من الجبن ونحوه: میرے ہاتھ میں پنیر وغیرہ سے بدبو لگ گئی۔ النَشَم (ن): وہ درخت جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ المَنْشَم: ایک قسم کی خوشبو۔ المَنْشِم: متعفن سیاہ رنگ کا پھل، ایک قسم کی خوشبو، مَنْشِم: ایک عطر فروش عورت کا نام جس کے عطر کو لگانے سے لوگوں کے درمیان جنگ تیز ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ برائی کی مثل بن گئی کہا جاتا ہے: اشأم من عطر مَنْشِم: منشم کے عطر سے زیادہ منحوس۔

نشو: نَشِيَ یَنْشَی نَشْوًا ونَشْوَةً ونِشْوَةً ونُشْوَةً: نشہ میں ہونا، بدمست ہونا، کہا جاتا ہے: نَشِيَ من الشراب: وہ شراب سے بدمست ہو گیا۔ الخبرَ: خبر دریافت کرنا۔ ـــ نَشْوَةً ونِشْوَةً ونُشْوَةً الریحَ: ہوا سونگھنا۔ نَشّی الثوبَ: کپڑے کو کلف دینا۔ تَنَشّی وانْتَشی: نشہ میں ہونا۔ الریحَ: ہوا کو سونگھنا۔ إِسْتَنْشَی الریحَ: ہوا کو سونگھنا۔ ـــ الخبرَ: خبر دریافت کرنا، النَشا جمع انشاء: عمدہ خوشبو، بو۔ والنَشاء: نشاستہ۔ النَشاوِیَة (ط) نشاستہ اور چینی سے تیار کیا ہوا کھانا۔ النَشْوَة: بو، اسم مرۃ، بدمستی یا مستی کی ابتداء۔ النِشْوَة: پہلی خبر۔ النَشْوان م نَشْوی جمع نَشاوی: بدمست۔ النَشْیان: سب سے پہلے خبر کو دریافت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ فلانٌ نشیانٌ للاخبار او بالاخبار فلاں شخص سب سے پہلے خبر دریافت کرنے والا ہے۔ النِشْیَة جمع نَشایا: بو۔

۲۔ نَشِيَ یَنْشَی نَشْوَة ونِشْوَة ونُشْوَة بالشئ: کو بار بار کرنا۔

۳۔ النَشا جمع نَشًا: خشک درخت۔

○ نِشان و نیشان جمع نَیاشین: نشان، مقصد، منزل، مقصود، مطمع نظر، ہدف، تمغہ، عروسی پوشاک۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نَشَنجِی ونَشَانِجی: نشانہ باز، اچھانشانہ باز، بڑانشانہ باز۔ نِشَنکاہ: بندوق کی شست کی مکھی۔ نَشنَشَ: چست و چالاک ہونا، پھرتیلا ہونا، ذہین ہونا، تیزفہم ہونا، سرگرم ہونا، سوں سوں کرنا، سنسنانا، بلبلے اٹھانا۔ تَنَشنَشَ: چست وچالاک ہونا پھرتیلا ہونا، ذہین ہونا، اصلی حالت پرآنا، شفاپانا، پانا۔

○ نشو ونشی: نَشِيَ يَنشَى نَشوًا و نُشوَةً و نِشوَةً: مدہوش ہونا مست ہونا، متوالا یامخمور ہونا یاہو جانا، بدمست ہونایاہوجانا۔ نَشَّى ہ: کپڑے کوکلف دینا۔ اِنتَشَى: مدہوش ہوجانا، مخمور ہوجانا، متوالا ہو جانا۔ اِستَنشَى ہ: کوسونگھنا، (بادسحر یابادنسیم)۔ جذب کرنا، سے لطف اندوز ہونا۔ نَشوَة: نکہت، مہکار، خوشبو، عطر، پھولوں کی باس، سنٹ، پھلیل، نشہ، سرشاری، بدمستی، بےخودی شراب خوری، مستی، بدماغی انتشار، بےہوشی، حالت غشی۔ نَشوَةُ الطَرَب: سرمستی، وجد، جوش، کمال مسرت، فخر وناز، خوشی، ولولہ، گہری دلچسپی۔ کیف، حد درجہ خوشی، غایت مسرت، نشاً: سنٹ، خوشبو، نشاستہ، کلف، ماوا۔ نَشَاء: نشاستہ، کلف، ماوا۔ نَشوِی: نشاستے والا، جمع نشویات: نشاستہ دارخوراک۔ نَشوَان م نَشوَى جمع نَشَاوَى نشہ میں، مدہوش، مخمور، متوالا، پئے ہوئے، وجد میں آیا ہوا، نازاں، خوش، بہت خوش، انتشاء: سرشاری، نشہ، بےخودی، بدمستی۔

نص: ۱۔ نَصَّ ـُـ نَصًّا الشيءَ: کوبلند کرنا، ظاہر کرنا۔ ـــ الحديثَ: حدیث کی سند بیان کرنا۔ ـــ المتاعَ: سامان کوایک دوسرے پررکھنا۔ ـــ العروسَ: دلہن کو چھپرکھٹ پربٹھانا ـــ فلانٌ عُنُقَهُ: گردن اونچی کرنا۔ ـ الشيءُ: ظاہر ہونا۔ ـ الرجُلَ: کامسئلہ پوری طرح دریافت کرنا۔ الناقةَ: اونٹنی کوتیز ہانکنا۔ ـ للشيء: کو ہلانا ـــ ـِـ نصِيصًا الشواءُ على النار: گوشت کا آگ پرتلتے ہوئے سوں سوں کرنا۔ ـــ ت القدرُ: ہانڈی کاجوش مارنا۔ نَصَّصَ المتاعَ: سامان ایک دوسرے پررکھنا۔ فلانٌ: سند بیان کرنے میں مبالغہ کرنا۔ وناصَّ مُنَاصَةً غريمَهُ: قرضدار سے جھگڑا اوراسے بہت تنگ کرنا۔ تَنَاصَّ القومُ: قوم کابھیڑ کرنا۔ إنتَصَّ الشيءُ: بلند ہونا، سیدھا کھڑا ہونا۔ ـــ ت العروسُ: دلہن کاچھپرکھٹ پربیٹھنا یاحجلۂ عروسی میں بیٹھنا۔ ـــ الرمحُ: نیزہ کاتنگ ہونا۔ النصّ (مص) جمع نُصُوص: مصرح کلام۔ ـ من الكلام: ایسا کلام جوصرف ایک معنی رکھتا ہواوراس میں تاویل کی گنجائش نہ ہو۔ ـــ من كل شيء: انجام، انتہاء۔

النَصَّة: اسم مرة۔ چڑیا۔ النُصَّة جمع نُصَص ونِصاص: پیشانی پرآئے ہوئے بال۔ النَصَّاص: ناک ہلانے والا۔ النَصِيص مص: نصيصُ القوم: لوگوں کی تعداد۔ المَنَصَّة: حجلۂ عروسی، دلہن کا چھپرکھٹ۔ المِنَصَّة جمع مِنَاص: دلہن کوبٹھانے کی کرسی، چبوترہ، پیوند لگے ہوئے کپڑے۔ روندے ہوئے فرش کہاجاتا ہے: وُضِع فلانٌ على المِنَصَّة: اس کی بےعزتی کی گئی۔ المَنصُوص: مفع المنصوص عليه: معین، مقرر۔

۲۔ نَضنَضَ البعيرُ: اونٹ کادونوں زانوں زمین پرٹکا کر اٹھنے کیلئے ہلنا۔ ـــ الشيءَ: کوہلانا۔ ـــ في مشيه: چلنے میں جھومنا۔ حيّةٌ نَضنَاضٌ: بہت حرکت کرنے والاسانپ۔

○ نَصَّ ـُـ نَصًّا على: کومقرر کرنا، کی حدود قائم کرنا، کی شرط لگانا، کااہتمام کرنا، کومہیا کرنا، مشروط قرار دینا۔ ـ على /عن: کی صراحت کرنا، کی تعیین کرنا، کی تفصیلات دینا، کومعین کرنا۔ ـ على: کامعین معنی بیان کرنا، کوممیز کرنا، واضح کرنا۔ ـــ ہ: کامتن معین یامقرر کرنا، (خط وغیرہ) مرتب کرنا، لکھنا، ترکیب دینا، کوترتیب دینا، کا انبار لگانا، کاتہ بہ تہ ڈھیر لگانا، کونصب کرنا، کی صف بندی کرنا۔ نَصّ جمع نُصُوص: متن، انتخاب الفاظ، الفاظ کی بندش، طرز ادا، طرز بیان، کسی خاص طرز کا بیان یاروایت، عبارت، عبارت یاکتاب کاکوئی حصہ، لفظ، کلمہ، تقریر، قول، مقولہ، جملہ، فقرہ، جزوکلام، جزو جملہ، طرز کلام، انداز بیان، بات مثل، کہاوت، پرمعنی مقولہ، دفعہ، شرط، اظہار، اسلوب اظہار، زبان، طرز تحریر، انداز بیان، اسلوب، اصطلاح، پیرایہ، قول و قرار، معاہدہ، شرط، ترتیب، اعلان، تجلی، انکشاف، ظہور، شہادت، گواہی، ثبوت۔ بِنَصِّهِ: لفظ بہ لفظ، حرف بحرف، بعینہ، بِنَصِّهِ وفَصِّهِ: انہی الفاظ میں، لفظی، واقعی، سچ مچ، ٹھیک ٹھیک، ہوبہو، من وعن، ایسے ہی۔ نَصًّا ورُوحًا: الفاظ اور حقیقی مقصد دونوں کی پابندی کرنے والا۔ نُصَّة جمع نُصَص: پیشانی کے بال۔ مِنَصَّة جمع مِنَصَّات و مَنَاصّ: چبوترا، شہ نشین، سٹیج، پلیٹ فارم، منبر، کمرے کے اطراف میں نشستوں کاسلسلہ، عروسی مسند، ایزل، ٹیکن (Easel)، مِنَصَّةُ الحُكم: اقتدار کامنصب، مقام، درجہ۔ مِنَصَّةُ الخطابة: منبر Rostrum۔ تنصيص: اقتباس، قول۔ علامات التنصيص: واوین ("......") Quotation marks۔ منصوص عليه: مقرر، معین، مشروط، لکھاہوا، مہیاکیا، فراہم شدہ

نصا: نَصَا ـــ نَصَاهُ: کے پیشانی کے بال پکڑنا۔

نصب: نَصَبَ ـِـ نَصبًا الشيءَ: کوبلند کرنا، کھڑا کرنا، کو رکھنا، جڑنا، لگانا، دھرنا، بٹھانا، نصب کرنا۔ ـ الكلمةَ: کلمہ پرعلامت نصب لگانا یااسے منصوب پڑھنا۔ ـــ الاميرُ فلانًا: امیر کاکسی کوعہدہ پرفائز کرنا۔ ـــ له رأيًا: کورائے دینا۔ ـــ له الشرَّ: کیلئے کینہ یابدباطنی ظاہر کرنا۔ ـ لفلان: سے دشمنی رکھنا۔ ـ الشجرةَ: زمین میں درخت لگانا۔ ـ له الحربَ: کیلئے لڑائی کی بنیاد رکھنا۔ ـــ ہُ المرضُ او الهمُّ: کوبیماری یاغم کا تھکانا یادردمند کرنا۔ نَصِبَ ـَـ نَصَبًا: تھکنا۔ ـــ في الامر: کام میں کوشش کرنا۔ نَصَّبَ الشيءَ: کورکھنا، بلند کرنا، کہاجاتا ہے: نَصَّبَتِ الخيلُ آذانَها: گھوڑوں کاکان کھڑے کرنا۔ ـــ الاميرُ فلانًا: کوکسی منصب پرفائز کرنا ناصَبَ مُنَاصَبَةً ہُ: سے دشمنی کرنا، کامقابلہ کرنا۔ ـــ ہُ الحربَ او العداوةَ: سے لڑائی کااعلان کرنا، پردشمنی ظاہر کرنا۔ أنصَبَ ہُ: کاحصہ مقرر کرنا، کوتھکانا۔ ـــ ہُ المرضُ: کوبیماری کادردمند کرنا۔ تکلیف دینا۔ ـ الحديثَ: حدیث کی سند بیان کرنا۔ ـ السكينَ: چھری میں دستہ لگانا۔ تَنَصَّبَ: کھڑا ہونا۔ ـــ الغبارُ ونحوهُ: گردوغبار کابلند ہونا۔ تَنَاصبوا الشيءَ: چیز کوآپس میں بانٹ لینا۔ إنتَصَبَ: کھڑا ہونا، بلند ہونا۔ ـــ الطاهي: پکانے والے کا ہانڈی چڑھانا۔ ـــ الحرفُ: حرف پرزبر ہونا۔ الناصب (فا) جمع نَواصِب: تیز چلنے والا۔ ـ عند النحاة: نصب دینے والاعامل۔ همٌّ ناصِبٌ: تھکا دینے والاغم۔ النَصب (مص): کھڑا کیاہواجھنڈا، بلا، بیماری، نتیجہ، غرض۔ ـــ عندالنحاة: اعراب کی ایک قسم۔ واحد نَصبَة (ز) گاڑنے جانے والے پودے۔ نَصبُ العَرَب: حدی سے مشابہ ایک راگ۔ النُصب: بیماری، بلا۔ ـ جمع أنصاب: گاڑی ہوئی چیز کھڑی کی ہوئی کوئی چیز۔ (کہاجاتا ہے: هذا نُصبَ عيني: یہ میری آنکھ کے سامنے ہے۔) بت۔ النِصب: حصہ۔ النُصُب: بیماری، بلا، نصاب کی جمع، حصہ، ہروہ چیز جو علامت مقرر کی جائے۔ ـــ جمع أنصاب: کھڑی کی ہوئی چیز۔ بت۔ مورتی، مجسمہ۔ الأنصاب: پتھر جو جاہلیت میں کعبہ کے گرد کھڑے کئے گئے تھے اوران پر غیراللہ کیلئے جانور ذبح کئے جاتے تھے۔ النَصَب (مص): تھکن، تھکاوٹ، محنت، مشقت، جانفشانی، جمع أنصَاب: نصب کیاہوانشان۔ النَصِب: بیمار، درد میں مبتلا۔ النُصبة جمع نُصَب: راستہ بتانے والا ستون، نشان راہ۔ النَصبَة: اعراب میں نصب کی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

علامت. گاڑنے کیلئے پودے، نصب کا اسم مرۃ۔ النصبۃ: گاڑنے کی نوعیت۔ النِصاب جمع نُصُب: اصل، مرجع، سورج ڈوبنے کی جگہ، ہر چیز کا اول، چھری کا دستہ۔ ـــ القانونی: کورم (ارکان کی وہ تعداد جو جلسہ کیلئے ضروری ہو۔) لازمی تعداد (Quorum) لنصّاب: ہر کام میں خود گھسنے والا۔ ـــ عند العامۃ: ٹھگ، دھوکے باز، فریبی، عیار۔ الأنصَب م نَصباء جمع نُصب: کھڑے سینگوں والا۔ ناقۃٌ نَصباء: ابھرے ہوئے سینے والی اونٹنی۔ النصیب جمع أنصِبۃ و أنصباء و نُصُب: حصہ۔ ھذا نصیبی: یہ میرا حصہ ہے۔ ضرب فلانٌ بنصیب: فلاں نے حصہ جیت لیا، اس سے ہے ـــ "الیانصیب" عند المویدین: لاٹری (lottery) پھندا، حوض۔ النصیبۃ النصائب کا واحد ہے۔ النصائب: وہ پتھر جو حوض (تالاب) کے گرد لگائے جاتے ہیں۔ الأناصیب و التناصیب: نشانات راہ۔ المَنصِب جمع مَناصِب: اصل، مرجع، حسب و شرافت، مقام، درجہ، عہدہ، رتبہ، منصب۔ لفلانٍ مَنصِبٌ: فلاں شخص بلند رتبہ ہے۔ مناصِبُ البلاد عند اھل لبنان القدماء: حکام و سرکردہ شخصیات۔ المِنصَب جمع مَناصِب: تین پایوں والا لوہے کا چولھا۔ المَنصَبَۃ: جدوجہد، محنت۔ عیشٌ ذو مَنصَبۃ: تھکا دینے والی زندگی۔ المُنَصَّب مفع: اسنان مُنَصَّبَۃٌ: خوبصورت ترتیب دار دانت۔ المَنصُوب (مفع) زبر والا لفظ۔ المَنصُوبۃ: منصوب کا مؤنث، حیلہ، کہا جاتا ہے: سوّی لہٗ مَنصُوبۃً: اس نے اس کے لئے ایک حیلہ ترتیب دیا۔

○ نَصَبَ ـ نَصبًا ہ: کو تعمیر کرنا، نصب کرنا، رکھنا، اونچا کرنا، بلند کرنا، اٹھانا، تیار کرنا، تیار رکھنا، لیس کرنا، (خیمہ) لگانا، نصب کرنا، (جھنڈا) لگانا، اونچا کرنا، اٹھانا (درخت) لگانا، (توپ) نصب کرنا۔ ـ کسی عہدہ یا منصب پر فائز کرنا، سرکاری حیثیت میں مسند نشیں کرنا۔ ـ ل ہ کی جانب برائی یا دشمنی وغیرہ ظاہر کرنا۔ ـ ہ علی ب کے خلاف تنقید وغیرہ کا رخ کرنا۔ ـــ علی: کو دھوکا دینا، سے بے ایمانی کرنا، دغابازی کرنا، کو ٹھگنا، سے دھوکے سے لے لینا، کو جل دینا، فریب دینا۔ ـــ. لفظ کو منصوب پڑھنا، کو نصب دینا، نصب لہ الحرب: کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ نصب لہ شرکًا او نصب لہ فخًا: کے لئے جال بچھانا۔ نصب لہ کمینًا: کے لئے گھات لگانا، کی گھات میں بیٹھنا۔ نصب مَکیدۃً: سازش کرنا۔

نَصَبَ ـ نَصبًا ہٗ: (بیماری یا غم کا) کسی کو پریشان کرنا، تھکانا، تھکا دینا، تکلیف پہنچانا، مغموم کرنا۔ نصبوا انفسھم ل: انہوں نے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا، انہوں نے کے لئے سخت جدوجہد کی ہے۔ نَصِبَ ـ نَصَبًا: تھک جانا، ـ فی: میں کوشش کرنا، زور لگانا، جدوجہد کرنا۔ نَصَّبَ ہ: کو نصب کرنا، سیدھا کرنا، اٹھانا، بلند کرنا، اونچا کرنا۔ ـ ہ ہ: کا بطور ـــــ: تقرر کرنا، کو کسی عہدہ پر تعینات کرنا۔ نَصَّبَ اذنیہ: کان کھڑے کرنا۔ ناصَبَ ہٗ: کا مخالف ہونا، دشمن ہونا، سے لڑنا، کی مخالفت کرنا، سے مقابلہ کرنا، سے دشمنی ظاہر کرنا۔ ناصَبَہُ الحربَ: کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ ناصَبَہُ الشرَّ: خود کو کھلم کھلا کسی کا مخالف ظاہر کرنا، کے خلاف جارحانہ اقدامات کرنا۔ ناصَبَہُ العداء: اپنے آپ کو کسی کا دشمن بیان کرنا۔ أنصَبَ ہٗ: کو تھکا دینا، کیلئے حصہ مقرر کرنا۔ إنتَصَبَ: اٹھنا، سیدھا ہونا، کھڑا ہونا، سینہ تاننا، جم جانا، سو کر اٹھنا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، عمودی حالت میں ہونا، نصب ہونا۔ ـــ ل: کے عہدہ پر فائز ہونا۔ ـــ: منصوب ہونا۔ انتصب للحکم: دوسروں پر نقطہ چینی کرنا، یا فتوی دینا۔ نَصْب: نصب کرنا، رکھنا، تعمیر، (جھنڈا) لگانا، بلند کرنا، تعیین، تعین، تعیناتی، تقرر، مسند نشینی، جانشینی، تخت نشینی۔ نصب (گرامر) بیماری، مرض، دھوکا، ٹھگی، خرد برد، چالبازی، دغابازی، فراڈ۔ نَصْب جمع أنصاب: زمین میں لگائی ہوئی کوئی چیز، پودے۔ نُصْب و نُصُب جمع انصاب: بت، مجسمہ، صنم، تراشیدہ بت، یادگار۔ نُصُب تذکاری: یادگار، خالی قبر، یادگار مقبرہ۔ نُصْبَ: کے سامنے، کے بالمقابل، آمنے سامنے۔ نُصبَ عینیَّ: میری آنکھوں کے سامنے۔ جَعَلَ (وَضَعَ) ہ نُصبَ عینیہِ: پر اپنی توجہ مرکوز کرنا، کو پیش نظر رکھنا۔ نَصَب: مشقت، سعی، جدوجہد، تندہی، تناؤ، زور، بے حد کوشش، دشواری، سختی، مصیبت، کلفت، اذیت، آزار تکلیف، تھکن، تھکان، محنت جمع أنصاب: زمین میں گاڑا ہوا جھنڈا۔ نَصَبَۃ جمع نَصَبات: پودا۔ نُصُبَۃ: کھمبا، میخیں، جنگلا، کھونٹا، میخ، چوب، لکڑی، چھڑی، پستہ، پیل پایہ، ستون، لاٹ، رہنما کھمبا، رہنما ہتھا۔ نِصاب: اصل، آغاز: کم از کم جائیداد کی رقم جس پر زکوٰۃ واجب ہو، کورم جمع نصابات و نُصُب: تلوار کا قبضہ، چاقو یا چھری کا دستہ۔ فی نِصابہ: اپنی مناسب جگہ میں، ترتیب میں ٹھیک ٹھاک، استقرتِ الامورُ فی نِصابِھا: معاملات معمول پر آگئے، معاملات سدھر گئے۔ وضع الحق فی نصابہ: انصاف بحال کرنا۔ وضع او ردّ (اَعادَ) امراً إلی نصابہ: معاملہ ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ عاد الھدوء إلی نصابہ: امن بحال ہو گیا۔ إتمامًا للنصاب: تعداد پوری کرنے کیلئے، مقدار پوری کرنے کے لئے۔ نَصّاب: دغاباز، دھوکے باز، فریبی، عیار، پتے باز، نَصِیب جمع نُصُب و أنصِباء و أنصِبَۃ: حصہ۔ ـ فی: میں شرکت، منافع میں حصہ، وقتاً فوقتاً ادا ہونے والا منافع، قسمت، خوش نصیبی، خوش قسمتی، اتفاق، امکان، احتمال، بہترین موقعہ، تقدیر، قرعہ، کان من نصیبہ: کے حصہ میں آنا۔ کان من نصیبہ أن: اتنا خوش نصیب ہونا کہ، کی خوش قسمتی ہونا کہ کان نصیبہ من ذلك الاخفاق: میں بدقسمت ہونا۔ ھو علی نصیبٍ وافرٍ من: میں کافی حصہ کا مالک ہونا۔ مَنصِب جمع مَناصِب: جگہ جہاں کوئی چیز لگائی جائے یا نصب کی جائے یا تعمیر کی جائے۔ عہدہ، منصب، مرتبہ، قدر و منزلت، عظمت، حیثیت، مقام، نوکری۔ اصحابُ المناصِب یا ارباب المناصب: معزز عہدے داران، اعلیٰ افسران، عالی مرتبہ شخصیات۔ ناصِب: تھکا دینے والا، اکتا دینے والا۔

نصت: نَصَتَ ـ نَصْتًا و انتَصَتَ لہٗ: کی بات چپ رہ کر سننا۔ أنصَتَ لہٗ: کی بات چپ چاپ سننا۔ ـ ہٗ: کو چپ کرانا، خاموش کرنا۔ تَنَصَّتَ: چپ اور خاموش ہو کر سننے کی کوشش کرنا۔ إستَنصَتَ: سننے کیلئے چپ چاپ کھڑا ہونا۔ ـ ہٗ: کو خاموش ہو کر بات سننے کے لئے کہنا۔ ـ النُصتَۃ: خاموشی۔

○ نَصَتَ ـ نَصْتًا و أنصَتَ ل / الی: کو بغور سننا، کو سننے کی کوشش کرنا، پر کان لگانا، پر کان دھرنا۔ تَنَصَّتَ: سننے کی کوشش کرنا، چھپ کر سن گن لینا، کن سوئیاں لینا، پوشیدہ ہو کر بغور سننا یا سننے کی کوشش کرنا، مُتَنَصِّت: چھپ کر سن گن لینے والا۔

نصح: نَصَحَ ـ نُصْحًا و نُصُحًا و نَصاحَۃً و نِصاحَۃً و نَصاحِیَۃً فلانًا و لفلان: کو نصیحت کرنا، سے خالص اور سچی دوستی کرنا، صفت ناصِح جمع نُصّاح و نُصَّح، کہا جاتا ہے: لا ارید منك نُصْحًا و لا انتصاحًا: میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے نصیحت کرو اور نہ مجھے خیر خواہ بناؤ۔ ـــ نَصْحًا و نُصُوحًا الشیءُ: خالص ہونا، صاف ہونا۔ ـــ ـ توبتَہٗ: سچی اور پختہ توبہ کرنا۔ ـــ العملَ: کو خالص طریقہ سے کرنا۔ ـــ العسلَ: شہد صاف کرنا۔ ـ الثوبَ: کپڑا سینا۔ ـــ الغیثُ البلدَ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بارش کا زمین کو سیراب کر کے سبزہ سے ڈھک دینا۔
ناصَحَ مُناصَحَةً نفسَهُ بالتوبة: خالص توبہ کرنا۔
— ہٗ: ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ اَنْصَحَ الراعی
الابلَ: چرواہے کا اونٹوں کو سیراب کرنا۔ تَنَصَّحَ:
بہت نصیحتیں کرنا، نصیحت کرنے والوں کے مشابہ بننا۔
۔ الثوبَ کپڑا سینا۔ اِنْتَصَحَ نصیحت قبول کرنا۔ —
فلانًا: کو خیر خواہ جاننا۔ اِسْتَنْصَحَ ہٗ: کو خیر خواہ سمجھنا
الناصح: خالص شہد وغیرہ (رجُلٌ ناصِحُ الجَیْبِ
پاک دل، مخلص، درزی۔ — عند العامة موٹا، فربہ
فعل "نَصِحَ" ہے اور اسم نَصاحة۔ النِصاحُ جمع
نُصُحٌ و نِصاحةٌ: سینے کا دھاگا۔ تار، لڑی۔ النِصاحات
واحد نِصاحة: چیز جو آپس میں سلے ہوئے ہوتے
ہیں۔ پھندے۔ النَصّاحُ و النّاصِحیّ درزی۔
غیوثٌ نواصح پے درپے برسنے والی بارشیں۔
النَصُوح نصیحت کرنے والا مرد یا عورت۔ توبةٌ
نَصُوحٌ: سچی توبہ۔ النَصِیحُ ج نُصَحاءُ مخلص، خیر
خواہ۔ النَصِیحَةُ (اسم مصدر) ج نَصائِحُ اخلاص،
خیر خواہی، اچھے کاموں کی طرف دعوت اور فساد والی
باتوں سے روکنا۔ المِنْصَحُ و المِنْصَحَةُ: سوئی۔
المُتَنَصَّحُ مفع ثوبٌ مُتَنَصَّحٌ پیوند لگا ہوا یا سلا ہوا
کپڑا، کہا جاتا ہے: إن فی ثوبه مُتَنَصَّحًا: اس کے
لباس میں درستی اور سلائی کی جگہ ہے۔
ن نَصَحَ — نُصْحًا و نُصُحًا و نَصاحةً و نَصِیحَةً
ہ/ل: کو مخلصانہ مشورہ دینا — ل/ہ ب: کو کوئی نصیحت
یا اصلاح دینا، کو کوئی تلقین کرنا۔ — کو سرزنش کرنا، سمجھانا،
نشیب و فراز دکھانا، تاکید کرنا۔ — نَصْحًا و
نُصُوحًا: مخلص ہونا۔ — ل: کی خیر خواہی کرنا، کا خیر
خواہ ہونا، کے ساتھ پُر خلوص ہونا۔ ناصَحَ ہٗ مخلصانہ
مشورہ دینا، سے مخلص ہونا۔ نُصْح اچھا مشورہ،
صلاح، مشورہ، تلقین، مشاورت، رہنمائی۔ نَصِیح
مخلص، مخلص اور ایماندار اصلاح کار۔ استنصاح:
صلاح مشورہ۔

نصر ا۔ نَصَرَ — نَصْرًا ہٗ: کی مدد کرنا۔ — ہٗ من و علی
عدوّہ: کو دشمن سے خلاصی دلانا، کے خلاف مدد دینا۔
— الغیثُ الارضَ بارش کا زمین کو بہت سیراب
کرنا۔ عالمگیر طریقہ سے برسنا۔ فلانًا کو دینا، عطا
کرنا، نُصِرَتِ الارضُ زمین پر بارش برسنا۔ ناصَرَ
مُناصَرَةً ہٗ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تَنَصَّرَ لہٗ کی
مدد میں دوڑ دھوپ کرنا۔ تَناصَرَ القومُ: مدد دینے
میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی
مدد کرنا، کہا جاتا ہے: تناصرتِ الاخبارُ خبروں کا
ایک دوسرے کی تصدیق کرنا۔ اِنْتَصَرَ غالب آنا،
کامیاب ہونا، ظالم سے بچنا۔ — من عدوّہ دشمن سے
انتقام لینا۔ — علی خصمه: دشمن پر غالب ہونا۔
اِسْتَنْصَرَہٗ: سے مدد چاہنا۔ — بہ: سے فریاد کرنا۔ —
فلانًا علی فلان: کے خلاف کسی سے مدد کرنے کی
درخواست کرنا۔ النّاصِرُ جمع ناصِرُون و نُصّار و
نُصَر و انصار فا: الانصار: نبی کریمؐ کے مدینہ کے
باشندوں میں سے مددگار۔ نسبت کیلئے انصاری۔ —
جمع نواصِر وادی کی طرف پانی بہنے کی نالی۔ مَدّت
الوادیَ النواصِرُ: وادی کو نالیوں نے بڑھا دیا۔
النّاصِرَةُ: الناصر کا مونث النَصْر (مص): مددگار (
رجُلٌ نَصْرٌ و قومٌ نَصْرٌ مددگار مرد اور مددگار لوگ)
ناصر کی جمع جیسے رکب و راکب، بارش۔ النُصَر:
مددگار۔ النَصْرةُ: نَصَر کا اسم مرة، پوری بارش۔
النُصْرةُ مدد، بہترین مدد، کامل بارش۔ النَصّار بہت
مدد کرنے والا۔ النَصُورُ مددگار۔ النَصِیرُ جمع
نُصَراءُ و انصار مددگار۔ النَصِیرةُ جمع نَصائِرُ
النصیر کا مونث، عطیہ۔ المَنْصُورُ مفع (ارضٌ مَنْصُورةٌ:
بارش سے سیراب زمین۔

۲۔ نَصَّرَہٗ کو نصرانی بنانا (بپتسمہ دینے کے معنی میں) تَنَصَّرَ:
نصرانی ہونا۔ النّاصِرة وہ شہر جہاں حضرت عیسیٰؑ کی
پیدائش ہوئی تھی۔ نسبت کیلئے: ناصِری۔ النَصْران
م نَصْرانة: نصرانی النَصْرانیُّ جمع نَصاریٰ م
نَصْرانیّة: شہر ناصرة کی طرف منسوب حضرت عیسیٰؑ
کے دین پر چلنے والے لوگ۔ النَصْرانیّةُ نصرانیوں کا
مذہب۔

۳۔ الناصُور جمع نَواصِیر: ناسور۔ النُصَیْریّةُ واحد
نُصَیْرِیّ غالی شیعوں کا ایک فرقہ جو شام کے شمال میں
سکونت پذیر ہیں اور اپنے عقیدہ کو چھپاتے ہیں۔

ن نَصِیر جمع نُصَراءُ: مددگار، حامی، حمایتی، موید،
طرفدار، محافظ، نگہبان، والی، سرپرست۔ مربیّ
حلیف، شریک کار، پیرو، بہی خواہ، آگے بڑھانے
والا۔ اخذ بناصرہ کی مدد کرنا۔ منصور تائید کیا
ہوا، حمایت کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیا ہوا،
فاتح، فتحمند، کامیاب، بامراد، مُنْتَصِر فاتح، جیتنے
والا، فتحمند، کامیاب، بامراد، مُناصِر مددگار، تائید
کنندہ، حامی، حمایتی، طرفدار، محافظ۔

نصع ا۔ نَصَعَ — نُصُوعًا و نَصاعَةً الشیءُ خالص
ہونا۔ — نُصُوعًا الامرُ معاملہ کا واضح ہونا، ظاہر
ہونا، کہا جاتا ہے: نَصَعَ الحقُّ حق واضح ہو گیا۔ —
اللونُ رنگ کا بہت سفید ہونا۔ — الشارِبُ پیاسے کا
پیاس بجھانا۔ — بالحق حق کا اقرار کر کے اسے ادا
کرنا۔ — تِ الامُّ بہ ماں کا بچہ جننا، کہا جاتا ہے۔
قَبَّحَ اللّٰهُ اُمًّا نَصَعَتْ بہ اللہ ایسی ماں کو بدشکل
بنائے جس نے اسے جنا۔ اَنْصَعَ بالحقِّ حق کا
اقرار کر کے اس کو ادا کرنا۔ — للشرِّ: برائی کے درپے
ہونا۔ النّاصِعُ خالص، صاف۔ اصفرُ ناصِعٌ
و ابیضُ ناصعٌ خالص اور صاف زرد و سفید۔ حقٌّ
ناصِعٌ: ظاہر حق، حسبٌ ناصِعٌ خالص حسب۔
النَصْعُ و النِصْعُ و النَّصَعُ: بہت سفید چمڑا یا کپڑا۔
النِّصَعُ: چمڑے کا فرش جس پر مجرم قتل کیا جاتا ہے یا
ایذاء دیا جاتا ہے۔ النَصِیعُ خالص، صاف۔
احمرُ نُصّاعٌ: خالص سرخ۔ حمرةٌ نَصّاعةٌ:
خالص سرخی۔ المَناصِعُ واحد مَنْصَعٌ قضائے
حاجت کی جگہیں۔

ن نَصَعَ — نُصُوعًا: خالص، صاف، ستھرا، پاک ہونا،
ظاہر ہونا، واضح ہونا، آشکار ہونا، — ب: کو تسلیم کرنا،
اَنْصَعَ ب: کو تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا، بجا سمجھنا۔
نُصُوع سفیدی، (رنگ کی) چمک دمک، آب و
تاب۔ نَصِیع خالص، صاف، واضح۔ نَصاعَة:
صفائی، پاکیزگی، وضاحت، صراحت، (نیز اظہار،
بحث مباحثہ کی وضاحت و صراحت) ناصِع خالص،
صاف، واضح، سفید، ناصع البیاض: برف جیسا
سفید۔ حق ناصع ظاہر حق، لهم جباه ناصعة:
ان کا ماضی اچھا ہے بے داغ ہے۔

نصف ا۔ نَصَفَ — نُصُوفًا ہٗ: کے آدھے تک پہنچنا۔ کہا
جاتا ہے: نَصَفْتُ عمری: میں اپنی آدھی عمر تک پہنچ
گیا۔ نصفتُ الکتابَ میں کتاب کے نصف تک
جا پہنچا۔ نصف النهارُ و غیرہ دن وغیرہ کا نصف
تک پہنچنا۔ — نُصُفًا و نَصافةً و نِصافةً الشیءَ:
آدھی چیز لے لینا۔ — القومَ لوگوں سے نصف لے
لینا۔ — الشیءَ بین الرجلین ایک چیز کو دو مردوں
میں آدھا آدھا بانٹ دینا۔ — القدحُ: پیالہ آدھا پانی
جانا۔ — نُصُوفًا النخلُ کھجور کے درخت کی بعض
کھجوروں کا سرخ ہونا اور بعض کا سبز رہنا۔ نَصَّفَ
الشیءَ: چیز کے دو حصے کرنا، کو آدھا آدھا کرنا، چیز کا آدھا
حصہ لے لینا۔ — النهارُ: دن کا آدھا ہونا۔ — رأسُ
فلان: کے سر کا آدھا حصہ سفید ہونا اور آدھا سیاہ رہنا۔
— الرجلُ مرد کا ادھیڑ عمر تک پہنچنا۔ — النخلُ کھجور
کے درخت کی کچھ کھجوریں سرخ ہونا اور کچھ سبز رہنا۔
اَنْصَفَ الشیءُ نصف تک پہنچنا۔ — الشیءَ: کا
آدھا حصہ لینا۔ — المسافرُ مسافر کا نصف النهار

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے وقت چلنا۔ یا نصف النہار میں چلنا۔ ـــ الماءُ
الاناءَ: پانی کا برتن کے آدھے حصہ تک پہنچنا۔ کہا جاتا
ہے: اَنْصَفْتُ الماءَ الاناءَ: میں نے پانی کو برتن
کے آدھے حصہ تک پہنچا دیا۔ ـــ الرجُلُ: منصف
ہونا۔ الخصمَیْن: دو خصموں (مخالف فریقوں) کے
درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا۔ ـــ من فلان: سے
اپنا حق پورا لے لینا۔ ناصَفَ مُناصَفَةً: گو آدھا
آدھا بانٹ لینا۔ ـــ هُ المالَ: کو آدھا مال دے دینا۔
تَنَصَّفَ الشیءَ: آدھی چیز لے لینا۔ کہا جاتا ہے:
تَنَصَّفْناكَ بيننا: ہم نے تمہیں اپنے درمیان رکھا۔ ـــ
الامیرَ: امیر سے انصاف کی درخواست کرنا۔ ـــ من
فلان: سے انصاف طلب کرنا، سے اپنا حصہ آدھا لے
لینا، انتقام لینا۔ تناصف القومُ: ایک دوسرے سے
انصاف کرنا۔ اِنتصف النهارُ وغیرہ: دن وغیرہ کا
نصف تک پہنچنا۔ ـــ سهمُهُ في الصيد: تیر کا شکار
کے بدن میں آدھے تک گھس جانا۔ ـــ الشيءَ: آدھی
چیز لے لینا۔ ـــ من فلان: سے انصاف طلب کرنا،
حق لینا، انتقام لینا۔ اِستَنصَفَ: انصاف چاہنا۔ ـــ
من فلان: سے اپنا پورا حق لینا۔ النصف (بتثلیث
النون) جمع اَنْصاف: آدھا۔ النِصْفُ والنَصَفُ
والنُصُفُ: انصاف، عدل۔ رجُلٌ نِصفٌ: عمر اور
قامت میں اوسط درجے کا مرد نہ چھوٹا نہ بڑا۔ امرأة
نِصفٌ ورجالٌ نِصفٌ اونساءٌ نصف: بھی اس
طرح اوسط قد اور عمر کی عورت، مرد یا عورتیں (واحد
کے لفظ کے ساتھ سب کے متعلق) النَصَف جمع
نَصَفُون و اَنْصاف: متوسط عمر کا درمیانی عمر کا رجُلٌ
نَصَف: اوسط عمر کا مرد۔ امرأة نَصَف: متوسط عمر کی
عورت جمع نُصُف و نُصُف و اَنْصاف۔ انّ فلانة
لعلى نَصَفها: فلاں عورت جوانی کے درمیان میں
ہے۔ والنَصَفة: انصاف، عدل۔ النَصِيف: چیز کا
آدھا حصہ، آدھی چیز۔ ـــ من البُرْد: دو رنگی چادر۔
الأَنْصَف: بہت انصاف کرنے والا، زیادہ نصف
کرنے والا (خلاف قیاس اَنصف کا اسم تفضیل ہے)
النَصْفان م نَصْفى من الآنية ونحوها: برتن
وغیرہ جو آدھے حصہ تک پانی سے بھرا ہوا ہے۔
العمودُ المُنْصِفُ لقطعة مستقیم (٥): قطعہ
کے نصف پر عمود۔ مُنصِفُ الزاوية (ھ): نصف
مستقیم زاویہ جو دو زاویوں کو برابر تقسیم کرے۔
المَنْصَف و المَنْصِف من الطريق: سڑک کا
درمیان مَنْصَفُ الشيء: چیز کا درمیان المُنَصَّف
مفع. وہ رس وغیرہ جو پک کر آدھا رہ گیا ہو مُنْتَصَفُ
الشیءِ: چیز کا درمیان۔ المتناصف من الرجال:
سڈول بدن والا، مکانٌ متناصفٌ: برابر برابر اجزاء
والی جگہ۔

۲۔ نَصَفَ ـِ نَصْفًا و نَصافًا و نِصافًا و نَصافَةً و
نِصافَةً الرجُلَ: کی خدمت کرنا۔ اَنْصَفَ فلانًا: کی
خدمت کرنا۔ تَنَصَّفَ الرجُلَ: کی خدمت کرنا۔ ـــ
فلانٌ فلانًا: کا مطیع ہونا، سے خدمت لینا، سے بھلائی
چاہنا۔ الناصِف (فا) جمع نَصَف و نَصَفَة
و نُصّاف: خادم۔ الناصِفة جمع نَواصِف: ناصف کا
مونث۔ المِنْصَف والمَنْصَف م مَنْصَفَة جمع
مَناصِف: خادم۔

۳۔ نَصَّفَ الجاریةَ: لڑکی کو اوڑھنی اوڑھانا۔ تَنَصَّفَ
الشیبُ فلانًا: کے تمام بال سفید ہونا۔ ـــ ت
الجاریةُ: لڑکی کا اوڑھنی اوڑھنا۔ اِنْتَصَفَت الجاریةُ:
لڑکی کا اوڑھنی اوڑھنا۔ النَصِيف: سر کو چھپانے والی
ہر چیز جیسے اوڑھنی، عمامہ وغیرہ۔

۴۔ ناصِفَةُ الماءِ جمع نَواصِف: پانی کی نالی۔

○ نِصف و نُصف جمع اَنصاف: آدھا۔ نِصف،
درمیان، نصف الدائرہ: نصف دائرہ (Semi-
Circle) نصف شهري: پندرہ روزہ، نصف
القرد: لیمر Lemar (بندر کی قسم کا ایک دودھ پلانے
والا جانور جو رات کو نکلتا ہے)۔ نصفُ القطر:
نصف قطر (Radius) نصف اللیل: آدھی رات،
نصف النهار: دوپہر، نیم روز۔ القسط نصف
السنوی: ششماہی قسط۔ نِصف: درمیانی چیز۔
درمیان عمر کا، درمیانی حجم یا خاصیت کا۔ نِصفی:
آدھا، نیم، نصف۔ تمثال نِصفی: اوپر کا دھڑ۔ نیم
مجسمہ، شلل نصفی: آدھے دھڑ کا فالج، لقوہ۔
نَصَف و نَصَفَة: انصاف۔ نصیف: نقاب، برقعہ،
پردہ۔ تنصیف: دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ مُناصَفَةً:
کا نصف، آدھوں آدھ، آدھا آدھا، برابر حصوں میں۔
اِنصاف: انصاف، عدل، معدلت، منصفانہ برتاؤ۔
ناصِف جمع نُصّاف و نَصَف و نَصَفَة: خادم، نوکر۔
مُنَصِّف: دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والا۔ مُنْصِف:
منصف، عادل، منصفانہ، معقول۔ مُنْتَصَف: درمیان
في مُنْتَصَفِ الطریق: راستہ کے درمیان میں۔
مُنْتَصَف الساعة العاشرة: ساڑھے نو (9:30)

نصل: نَصَلَ ـُ نُصُولاً السهمُ: تیر میں پیکان لگانا۔ ـــ
السَهمُ: تیر میں پیکان لگنا۔ ـــَ نَصْلاً و نُصُولاً
من كذا: سے نکلنا، کہا جاتا ہے نَصَلَ السهم من
نصله و نصلت الخیلُ من الغبار و نَصَل
الطریقُ من موضع كذا: تیر پیکان سے، گھوڑے
گرد و غبار سے اور راستہ کسی جگہ سے نکلا۔ ـــ ت
اللحيةُ: داڑھی پر خضاب کا رنگ اتر جانا۔ نَصَل
لونُ الثوب ونحوہ: کپڑے وغیرہ کا رنگ بدل
گیا، اڑ گیا۔ ـــ ت اللسعة او لحُمَةُ: ڈنک کا اثر
جاتا رہنا۔ ـــ بحقی صاغراً: کو نکالنا۔ ـــ من
بین الجبال: پہاڑوں کے درمیان سے ظاہر ہونا۔ ـــ
ت الناقةُ: اونٹنی کا اونٹوں سے آگے نکل جانا۔ نَصَّلَ
السهمَ: تیر میں پیکان لگانا۔ اَنْصَلَ السهمَ: تیر
میں پیکان لگانا۔ تیر سے پیکان نکالنا۔ ـــ الشیءَ من
الشیءِ: چیز کو چیز سے نکالنا۔ تَنَصَّلَ الشیءَ: کو
نکالنا، کو پسند کرنا۔ ـــ الرجلَ: کے پاس سے سب کچھ
لے لینا۔ ـــ الی فلان من الجنایة: کے نزدیک
سنگین جرم سے بری الذمہ ہونا، کا جواز پیش کرنا۔ ـــ
من كذا: سے نکلنا۔ ـــ كَمَدُ فلان: کا رنج و غم دور
ہونا۔ ـــ ت اللِحيةُ: داڑھی سے خضاب کا رنگ
اترنا۔ تَناصَلَ: نکلنا، ظاہر ہونا۔ اِنْتَصَلَ السهمُ:
کا پیکان نکلنا۔ اِسْتَنْصَلَ ہُ: کو نکالنا۔ ـــ ت الریحُ
الیبسَ: ہوا کا خشک پودے اکھیڑنا۔ النَصْل (مص):
جمع نِصال و اَنْصُل و نُصُول: تیر کا پیکان، نیزہ،
تلوار یا چھری کا پھل، تلوار کو بھی نَصل کہا جاتا ہے۔ ـــ
او الصفیحة (ن): پتہ کا پھیلاؤ۔ نَصلُ الرأس:
سر کی چوٹی۔ النَصْلان: پیکان اور بھالا۔ النَصْلَة:
ایک پیکان۔ النَصِيل جمع نُصُل: کلہاڑا، سر کا بالائی
حصہ، تالو، سر اور گردن کا جوڑ، وادی کی شاخ، صاف
کیا ہوا گیہوں، لمبا پتھر جس سے کوٹا جاتا ہے۔ نَصِيل
الحجر: پتھر کی سطح۔ المِنصَل والمُنصَل: لمبا
کوٹنے کا پتھر۔ المُنْصُل و المُنصَل جمع مَناصِل:
تلوار۔

○ نَصَلَ ـُ نُصُولاً: گرنا، زمین پر گرنا (رنگ کا) ماند
پڑنا، اڑ جانا، پھیکا پڑنا۔ ـــ من: سے چھٹکارا حاصل
کرنا، آزاد ہونا۔ تَنَصَّلَ من: سے آزاد ہونا، چھٹکارا
پانا، کو چھوڑنا، سے دست بردار ہونا، سے انکار کرنا، پہلو
تہی کرنا، بچنا، سے ہٹ جانا، سے ہاتھ دھو لینا، اپنے
آپ کو جرم سے بری ثابت کرنا، اپنے بارے میں
تائیدی دلائل پیش کرنا۔ تَنَصَّلَ من التبعة او
المسؤولية: ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرنا،
ذمہ داری سے پہلو تہی کرنا۔ ناصِل: گرنے والا،
مرجھایا ہوا، پژمردہ، ماند، پھیکا، اڑا ہوا (رنگ)

نصم: النَصَمَة: وہ تصویر جس کی تعظیم کی جاتی ہے
بزرگوں کی تصویر جو دیواروں پر بنائی جاتی ہے۔ بت،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

صفر۔

نصو: ا۔ نَصَا يَنْصُو نَصْوًا و نَاصَى: کو پیشانی سے پکڑنا۔ ـــ ت الماشِطَةُ المرأة: مشاطہ کا عورت کی پیشانی کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ ناصَى مُناصاةً ومُناصَاةً الرجُلَ: ایک دوسرے کو پیشانی سے پکڑنا۔ ـــ الشيءُ الشيءَ: ایک چیز کا دوسری چیز سے متصل ہونا۔ نَصَّى الرجُلَ: کو پیشانی سے پکڑنا۔ تَنَصَّت المرأةُ: عورت کا اپنے پیشانی کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ ـــ الشيءُ الشيءَ: چیز کا چیز سے متصل ہونا۔ ـــ الرجُلُ القومَ: قوم کی بہترین عورت سے شادی کرنا۔ تَنَاصَى القومُ: جھگڑے میں ایک دوسرے کے پیشانی کے بالوں کو پکڑنا۔ ـــ ت الاغصانُ وسحوها: ہوا سے ٹہنیوں کا ایک دوسرے میں گھسنا۔ الناصِيَةُ جمع نَواصٍ و ناصِيات: پیشانی، پیشانی کے بال جب دراز ہوں۔ کہا جاتا ہے: جَزَّ فلانٌ ناصيةَ فلان: فلاں شخص نے فلاں کی توہین کی اور اسے بے وقعت کیا۔ نَواصِي الناسِ: قوم کے بڑے لوگ۔ المُنْتَصَى: دو وادیوں کے اتصال کی جگہ۔ دو وادیوں کے اوپر کے حصہ کے ملاپ کی جگہ۔

۲۔ نَصَا يَنْصُو نَصْوًا فلانٌ الثوبَ: کپڑا اور کرتا اتارنا۔

۳۔ النَّصْو (طب): پیٹ درد۔

○ ناصية جمع نواصٍ: (سڑک یا گلی کا) کونا۔ اخذ بناصيته: کو پیشانی کے بالوں سے پکڑنا۔ ـــ ہ: کو مناسب طور پر سلجھانا۔ ملك ناصيته: کا مالک یا کاریگر ہونا، یا ہو جانا، کو قابو میں رکھنا یا کرنا، پر کنٹرول کرنا، پر کمال حاصل کرنا، کا استاد ہو جانا۔ امتلك نواصيه: کا مالک یا کاریگر ہونا یا ہو جانا۔ کو قابو میں رکھنا یا کرنا، پر کنٹرول کرنا، پر کمال حاصل کرنا، کا استاد ہو جانا۔ كل الآمال معقودة بناصيته: سب امیدیں یا توقعات اس سے وابستہ ہیں۔ حجر الناصية: کونے کا پتھر۔

نصى: ا۔ أَنْصَى إنصاءً المكانُ: جگہ کا بہت جھاڑی (چارہ) والا ہونا۔ اِنْتَصَى اِنْتِصاءً الشَعرُ: بالوں کا لمبا ہونا۔ ـــ الجبلُ او الارضُ: پہاڑ یا زمین کا بلند و لمبا ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو پسند کرنا۔ النَصِيّ واحد نَصِيَّة جمع أَنْصاء جج أَناصٍ (ن): ایک قسم کا عمدہ چارہ۔ ـــ جمع أَنْصِيَة (ع ا): گردن کی ہڈی۔ النَصِيَّة جمع نَصِيّ وجج أَنْصَاء وأَنَاصٍ: بمعنی نَصِيّ ـــ من القوم او الابل وغيرها: چیدہ و برگزیدہ۔ (لوگ، اونٹ وغیرہ) کہا جاتا ہے۔ هذه نَصِيَّتي: یہ میری بہترین اور چیدہ چیز ہے۔

۲۔ النَصِيَّةُ جمع نَصِيّ وجج أَنصاء و أَناصٍ: بقیہ۔

نض: ا۔ نَضَّ ـِـ نَضًّا ونَضِيضًا الماءُ: پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا، رسنا۔ ـــ ت القِربةُ من شدة الملء: مشک کا زیادہ بھرنے سے پھٹ جانا۔ ـــ مالُهُ: سامان کا نقدی میں تبدیل ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو ظاہر کرنا۔ ـــ نَضِيضًا الامرُ: ممکن ہونا۔ ما نَضَّ بيدي منه شيءٌ: میرے ہاتھ سے کچھ جدا نہیں ہوا۔ خذ ما نَضَّ لك من دين او ثمن: جو قرض یا قیمت ہو سکے لے لو۔ نَضْنَضَ الرجُلُ: بہت درہموں اور دیناروں والا ہونا۔ أَنَضَّ الحاجةَ: حاجت (ضرورت) پوری کرنا۔ تَنَضَّضَ حقَّهُ من فلان: سے اپنا حق تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرنا۔ ـــ الحاجةَ: حاجت پوری کرنا۔ ـــ فلانًا: کو برانگیختہ کرنا۔ اِسْتَنَضَّ حقَّهُ من فلان: سے اپنا حق تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔ ـــ المعروفَ او الخيرَ: بھلائی یا خیر تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرنا۔ الناضّ (فا): درہم و دینار۔ امرٌ ناضٌّ: ممکن کام۔ ماءٌ ناضٌّ: دیر تک ٹھہرنے والا پانی۔ النَضّ (مص) درہم و دینار۔ (استخلصه منه نَضًّا: سے نقد لینا) مکروہات، معاملہ وغیرہ۔ رجُلٌ نَضُّ اللحمِ: کم گوشت مرد۔ النِضَاض: تھوڑا تھوڑا فائدہ حاصل کرنا۔ النُضَاضَة من الماء وغيره: بچا ہوا پانی وغیرہ، تھوڑا پانی۔ نُضَاضَة الرجل: کا آخری بچہ۔ النَضَّاض م نَضَّاضَة: فعال مبالغہ کا۔ بئرٌ نَضُوضٌ: وہ کنواں جس سے پانی رسے۔ النَضِيض (مص) جمع نِضَاض: تھوڑا پانی وغیرہ۔ رجُلٌ نَضِيض اللحم: تھوڑے یا کم گوشت والا مرد۔ جاء القوم بأقصى نضيضهم: لوگ اپنی جماعت کے ساتھ آئے۔ النضيضة جمع أَنِضَّة ونَضَائِض: تھوڑی سی بارشیں، کہا جاتا ہے: جاؤوا بأقصى نضيضتهم: وہ اپنی آخری جماعت کے ساتھ آئے۔ إبلٌ نَضِيضَة و نَضَائِض: پیاسے اونٹ جن کی پیاس نہیں بجھتی۔

۲۔ نَضَّ ـِـ نَضًّا ونضيضًا العودُ: جلتے میں لکڑی کے دوسرے سرے سے پانی نکلنا۔ النَضَائِض: واحد نضيضة: گرم پتھر پر گوشت بھننے کی آواز۔

۳۔ نَضَّ ـِـ نَضًّا و نضيضًا الطائرُ جناحيه: پرندہ کا اپنے بازوؤں کو ہلانا۔ نَضْنَضَ الشيءَ: کو حرکت دینا، ہلانا۔

۴۔ نَضْنَضَ الرجُلُ: بہت درہموں اور دیناروں والا ہونا۔

۵۔ نَضْنَضَ لسانه: زبان کو ہلانا، پھرانا۔ نَضْنَاض و نَضْنَاضة من الحيات: جو زبان نکال کر اسے ہلانے والا سانپ۔ وہ سانپ جو کسی جگہ ٹھہرے یا جو اس شخص کو فوراً مار ڈالے جسے کاٹے۔

○ نَضَّ ـِـ نَضًّا و نضيضًا: اتار چڑھاؤ کی تیزی کرنا، رسنا، چونا، ٹپکنا، بہنا، پھوٹ نکلنا، رطوبت خارج ہونا، قطرہ قطرہ ٹپکنا، بہنا، قطرہ قطرہ ہو کر گرنا۔ نَضّ: نقد، نقدی، سکہ، سکے۔ نَضَّ: نقد، نقدی۔ مالٌ نضٌّ: نقد، سکے، سکہ۔

نضب: ا۔ نَضَبَ ـُـ نُضُوبًا الماءُ: پانی کا بہنا۔ ـــ عمرُهُ: کی عمر ختم ہونا۔ ـــ نُضُوبًا الماءُ: پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ ـــ فلانٌ الثوبَ: کپڑے اتار دینا۔ ـــ عن الشيءِ: کشادہ ہونا، کہا جاتا ہے نَضَبَ عنه البحرُ: دریا کے پانی کا خشک ہونا۔ ـــ الخيرُ: بھلائی کا کم ہونا۔ ـــ ت عينه: آنکھ دھنس جانا۔ ـــ ت المفازةُ: ریگستان کا دور تک پھیلا ہوا ہونا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا دور ہونا۔ ـــ فلانٌ: مرنا، کہا جاتا ہے نضب ماءُ وجهه: بے حیا ہو جانا۔ نَضَبَ الماءُ: پانی کا زمین میں بیٹھ جانا۔ ـــ ت الناقةُ: اونٹنی کا دودھ کم ہو جانا۔ الناضِب جمع نُضَّب: فا غديرٌ ناضِبٌ: خشک تالاب، مكانٌ ناضِب: دور کی جگہ۔ دور افتادہ جگہ۔

۲۔ أَنْضَبَ القوسَ: کمان کی تانت کو کھینچنا تا کہ وہ آواز دے۔

۳۔ التَنْضُب جمع تَنَاضِب (ن): ایک خاردار درخت۔

○ نَضَبَ ـُـ نُضُوبًا: زمین میں رسنا، جذب ہو جانا، خشک ہو جانا، ختم ہو جانا، مر جانا، کم ہو جانا، خالی ہو جانا، خرچ ہو جانا، گھٹنا، سکڑنا، سمٹنا، جھکنا، ڈھلنا، زوال پذیر ہونا۔ لا يَنْضب: لامتناہی، لازوال، بے انتہاء، جو کبھی ختم نہ ہو، مسلسل، پیہم، پے در پے، بلا ناغہ۔ أَنْضَبَ ہ: کو کھینچ لینا، خالی کر ڈالنا، صرف کرنا، کمزور کر دینا، خشک کرنا، زائل کرنا، کھوکھلا کرنا، ختم کرنا، ناضب جمع نُضَّب: خشک، بے برگ و گیاہ، بنجر، کلر، شور، بانجھ

نضج: نَضِجَ ـَـ نَضْجًا الثمرُ او اللحمُ: پھل یا گوشت کا پکنا۔ صفت ناضِج و نَضِيج۔ ـــ نَضَجًا ونَضَّجَت الناقةُ بولدها: اونٹنی کے بچے دینے کی مدت گزر جانا اور بچہ نہ ہونا۔ أَنْضَجَ الثمرَ او اللحمَ: پھل یا گوشت کو پکانا۔ اِسْتَنْضَجَ الكراعَ اي يدَ الشاة: بکری کے پائے پکانا۔ النُضْج والنَضْج: پھل یا گوشت کا پختہ ہونا، پکا ہونا، کہا جاتا ہے: هو نَضِيجُ الرأيِ: وہ پختہ رائے والا ہے۔ امرٌ مُنْضَج: پختہ بات۔ المِنْضَاج: گوشت بھونے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کی بیخ۔

○ نَضِجَ ۔ نَضْجًا: معاملہ، شخصیت وغیرہ کا (پختہ یا پختہ کار ہونا، (گوشت کا) خوب پکا ہوا ہونا، (پھوڑے وغیرہ کا) پکنا، سے مواد آنا۔ اَنْضَجَ ھ: کو پکنے دینا، کو اچھی طرح پکانا۔ نَضْج و نُضْج: پختگی، پختہ کاری، بلوغ، انقضاء میعاد۔ نُضُوج: پختگی، پختہ کاری، بلوغ، انقضاء میعاد۔ نَضِیج: پکا ہوا، پختہ، پختہ کار، اچھی طرح پکایا ہوا، (کھانا)۔ نَاضِج: پختہ کار، اچھی طرح پکایا ہوا، (کھانا) بالغ۔

نضح: نَضَحَ ۔ نَضْحًا البیتَ بالماءَ: گھر میں پانی چھڑکنا۔ ــ علیه الماءَ: پر پانی چھڑکنا۔ ــ الجلدَ: کھال کو تر کرنا ــ عطشَهٗ: پیاس بجھانا، سیر ہو کر نہ پینا۔ ــ النخلَ: کھجور کے درخت کو اونٹنی کے ذریعے پانی لا کر سیراب کرنا۔ ــ الشجرُ: درخت کا کلی دار ہونا۔ ــ الزرعُ: فصل میں دانیں پڑنے لگنا، دانے دار ہونے لگنا۔ ــ فلانًا بالنبل: پر تیر اندازی کرنا۔ ــ البعیرُ الماءَ: اونٹ کا کھیت میں ڈالنے کے لئے نہر یا کنویں سے پانی لانا۔ ــ عن نفسه: اپنی مدافعت کرنا۔ ــ نَضْحًا و تنضاحًا الإناءُ: برتن کا رسنا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا پسینہ بہانا۔ ــ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ ــ ت السماءُ القومَ: آسمان کا لوگوں پر بارش برسانا۔ نَاضَحَ مُنَاضَحَةً عن كذا: کی مدافعت کرنا۔ اَنْضَحَ الزرعُ او الشجرُ: فصل کا یا درخت کا کلی دار ہونا۔ ــ عِرضَ فلان: کی آبرو خراب کرنا۔ تَنَضَّحَ من فلان: سے بری ہوا۔ ــ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِنْتَضَحَ الماءُ علیه: پر پانی کا چھڑکاؤ ہونا۔ اِسْتَنْضَحَ المُتَوَضِّئُ: وضو کرنے والے کا وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑکنا۔ الناضِح (فا): بارش، پانی چھڑک کر سیراب کی ہوئی جگہ ــ م ناضِحَة جمع نَوَاضِح: پانی لادنے کا اونٹ۔ النَّضْح (مص) جمع نُضُوح و اَنْضِحَه: پانی کا چھڑکاؤ، کھیت سیراب کرنے والا پانی۔ پانی کی طرح پتلی چیز۔ النَّضَج جمع نُضُوح و اَنْضَاح: حوض، تالاب۔ النَّضَّاح م نَضَّاحَة: مبالغہ کا صیغہ۔ کھجور کے درختوں کو سیراب کرنے والا۔ پانی لادنے کے اونٹ کو ہانکنے والا۔ قوسٌ نَضَّاحة بالنبل: تیر عمدہ پھینکنے والی کمان۔ النَّضُوح: ایک قسم کی خوشبو۔ قربةٌ نَضُوح: پانی چھڑکنے کی مشک۔ قوسٌ نَضُوح و نُضَحِیَّة بالنبل: تیر عمدہ پھینکنے والی کمان۔ النَّضِیح جمع نُضُح: حوض، تالاب، پسینہ، التَّنْضَاح: پسینہ

المِنْضَحة و المَنْضَحة: پانی چھڑکنے کا آلہ۔ جھارہ۔

○ نَضَخَ ۔ نَضْخًا ھ ب: کو سے تر کرنا، گیلا کرنا، نم کرنا، مربوط کرنا، پر کچھ چھڑکنا، پر (پانی) چھڑکنا، ــ سے پر چھڑکاؤ کرنا ــ ھ: پودوں کو پانی دینا، کی آبپاشی کرنا، پیاس بجھانا، کو تسکین دینا۔ ــ عن: کا دفاع کرنا، کی حفاظت کرنا ــ عن: کو روا رکھنا، کا جواز پیش کرنا، کی برات کرنا، کے لئے جواب دہ ہونا۔ کا ذمہ دار ہونا، کی تلافی کرنا۔ ــ نَضَخَان: مائع یا سیال نکالنا، خارج کرنا۔ ــ پسینہ پسینہ ہو جانا، پسینہ نکلنا، پسینہ آنا، عرق آلود ہونا، رسنا ــ ب: کے ساتھ بہنا، پھوٹ پڑنا، جاری ہونا، کو گرانا، چھینٹنا، پچھاڑنا، خارج کرنا، بہانا، نکالنا، انڈیلنا۔ نَضَّاحة: چھڑکاؤ کی کل۔ مِنْضَخ: چھینٹا، بوچھاڑ، ڈوش، پچکاری۔ مِنْضَخة جمع مَنَاضِخ: پانی دینے والی بالٹی، بوچھاڑ، پچکاری، ڈوشی۔

نضخ: نَضَخَ ــ نَضْخًا هُ: پر چھڑکنا، کو تر کرنا، کہا جاتا ہے: نَضَخَ النبْلَ و بالنبْلِ فی العدو: اس نے دشمنوں میں نیزے مار کر بکھیر دیے۔ ــ نَضْخًا و نَضَخَانًا الماءُ: پانی کا چشمہ سے زور سے پھوٹنا۔ نَاضَخَ مُنَاضَخَةً و نِضَاخًاهُ: ایک دوسرے پر پانی چھڑکنا۔ اِنْضَخَّ و انَّضَاخَ علیه الماءُ: پر پانی کا گرنا۔ اِنْتَضَخَ الماءُ: پانی کا چھڑکا جانا۔ النَّضْخ (مص): کپڑے وغیرہ پر خوشبو کا نشان۔ النَّضْخَة: بوچھاڑ۔ النَّضَّاخ: موسلا دھار بارش۔ عینٌ نَضَّاخَةٌ: ابلتا ہوا چشمہ۔ المِنْضَخَة جمع مَنَاضِخ: پانی چھڑکنے کا آلہ۔ عوام اسے مرشّة یا رشّاشه کہتے ہیں۔

نضد: نَضَدَ ۔ نَضْدًا و نَضَّدَ المتاعَ: سامان کو ایک دوسرے پر چن کر یا ڈھیر لگا کر اکٹھا کرنا، ایسے سامان کو منضود و نَضِید و مُنَضَّد کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ رایٌ مُنَضَّد: پیوستہ اور مضبوط رائے۔ تَنَضَّدَت الاسنانُ ونحوها: دانتوں کا بالترتیب ہونا۔ اِنْتَضَدَ القومُ بمكان كذا: کسی جگہ لوگوں کا جمع ہونا اور ٹھہرنا۔ النَّضَد جمع اَنْضَاد و نُضُد: فربہ اونٹنی۔ جمع اَنْضَاد: گھر کا چنا ہوا سامان۔ تخت، تہ بتہ، بادل، شریف، عزت و شرف، کہا جاتا ہے: لِبَنِی فلان نَضَدٌ: فلاں قبیلہ عزت و شرافت کا پیکر ہے۔ اَنْضَادُ الجبال و السحاب: تہ بتہ، پہاڑ یا بادل۔ اَنْضَادُ القومِ: لوگوں کی جماعت اور تعداد۔ اُنْضَادُ الرجلِ: مرد کے شریف چچا اور ماموں۔ النَّضُود جمع اَنْضَاد و نُضُد: فربہ اونٹنی۔ النَّضِیدَة جمع نَضَائِد: بھری ہوئی چیز۔ تکیہ۔ المِنْضَدة: میز جن پر گھر کا سامان رکھا جائے۔ لکھنے پڑھنے کی میز، جس پر کتابیں رکھی ہوئی ہوں۔

○ نَضَّدَ ھ: ٹائپ کے حروف کو جوڑنا اور جمانا۔ نَضَد جمع اَنْضَاد: پلنگ، چارپائی، کھاٹ، ڈھیر، (کتابوں) کی قطار، بوریوں کی قطاریں، متوازی قطاریں۔ نُضُد: میزیں۔ نَضِید: ایک دوسرے پر ترتیب سے رکھی ہوئی، متوازی قطاروں میں کھڑی کی ہوئی، تہ بہ تہ، قرینہ سے لگی ہوئی (اشیاء)، بالترتیب، سلیقہ کا، باقاعدہ، باضابطہ، نَضِیدَة جمع نَضَائِد: تکیہ، گدا، مِنْضَدَة جمع منضدات و مَنَاضِد: میز، کام کرنے کا میز، ڈسک، پلنگ، سہارا، بنیاد، ریک، خانہ، اڈا۔ تنضید: ٹائپ کے حروف کو جوڑنا، جمانا۔ مُنَضِّد: ٹائپ، سیٹ کرنے والا، کمپوزیٹر۔ (Compositor) (typsett) مُنَضَّد: ترتیب سے لگے ہوئے دانت وغیرہ، باقاعدہ لڑی میں پروئے ہوئے۔

نضر: نَضَرَ ــ نُضْرًا و نَضْرَةً و نَضَرًا و نُضُورًا و نَضَارَةَ الوجهُ او الشجرُ وغیرها: چہرے درخت وغیرہ کا ملائم و تازہ اور خوبصورت ہونا۔ صفت ناضِرٌ و نَضِیر و نَضِر۔ ــ نَضْرًا هُ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا تر و تازہ بنانا۔ نَضِرَ ــ و نَضُرَ ــ نُضْرًا و نَضْرَةً و نَضَرًا و نُضُورًا و نَضَارَةً الوجهُ او اللونُ او الشجرُ وغیرها: چہرے، رنگ، درخت وغیرہ کا نرم و ملائم و تازہ اور خوبصورت ہونا۔ صفت ناضِرٌ نَضِیر و نَضِر۔ نَضَّرَهُ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا تر و تازہ بنانا۔ اَنْضَرَ: تر و تازہ ہونا ــ الشجرُ: درخت کا سبز پتوں والا ہونا ــ هُ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا تر و تازہ بنانا۔ اِسْتَنْضَرَ الشئَ: کو تر و تازہ پانا یا سمجھنا۔ الناضِر: خوبصورت، نرم و ملائم، سبزکائی۔ من کل لون: شوخ رنگ کا۔ احمر ناضر و اخضر ناضِر: شوخ سرخ، شوخ سبز۔ النَّضْر جمع نِضَار و اَنْضُر: سونا، چاندی (زیادہ تر سونے کے معنی میں آتا ہے)۔ النَّضْرَة: نعمت، حسن، رونق، دولتمندی، سونے کی ڈلی، کہا جاتا ہے: تعرف فی وجوههم نَضْرَةَ النعیم: ان کے چہروں میں آسودگی کی چمک اور رونق معلوم ہوتی ہے۔ النُّضَار: سونا، چاندی، عموماً سونا، ہر خالص شئے، خالص سونا ــ النِّضار: جھاؤ کا درخت، برتن بنانے کے کام کی عمدہ لکڑی۔ قدحٌ نُضَار: عمدہ لکڑی سے بنایا ہوا پیالہ۔ النُّضَارِیَّة (ح): ایک کیڑا جو چوتوں سے غذا حاصل کرتا ہے۔ النُّضَارِیات (ح): ایک کیڑے کی قسم۔ النَّضِیر و الأنْضَر: سونا، چاندی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نَضَرَ ـُ وَنَضِرَ ـَ وَنَضُرَ ـُ نُضُورا و نَضْرَةً ونَضَارَةً: سرسبز ہونا، شگفتہ ہونا، ہرا بھرا، تروتازہ، لہلہاتا ہوا یا خوبصورت ہونا، چمکدار ہونا، درخشاں ہونا، شوخ ہونا، تاباں ہونا، منور ہونا، تابندہ، فروزاں ہونا۔ نَضَّرَ ہ: کو چمکانا، شگفتہ کرنا۔ تَنَضَّرَ: ہرا، سبز، ہرا بھرا، تر و تازا ہونا، لہراتا ہوا ہونا، شگفتہ ہونا، شگوفے دار ہونا۔ نَضِر: سرسبز، شگفتہ، ہرا بھرا، تروتازہ، لہلہاتا ہوا، تابندہ، فروزاں، شعاع افشاں، نور افشاں، دمکتا ہوا، دمکتا ہوا۔ نَضْرَة: پھول، کلی، گل، بہار، رونق، تازگی، نظر فریب حسن، دلربائی، کشش، ظاہر شان، شان وشوکت، چمک، دمک، آب وتاب، خوبصورتی، صحت، قوت، طاقت، کس بل، دم خم، جان، زور، جوش، امیری، امارت، دولت، نُضَار: (خالص) سونا۔ نَضَارَة: پھول کلی، تازگی، جوانی، شباب دلکشی، حسن جمال، صحت، طاقت قوت، جان، زور، کس بل، دم خم۔ نَضِير: سرسبز، شگفتہ، ہرا بھرا، تروتازہ، لہلہاتا ہوا، تازہ، چمکدار، روشن، منور، تاباں، سونا۔ نَاضِر: سرسبز، شگفتہ، ہرا بھرا، تر و تازہ، لہلاتا ہوا، چمکدار، روشن، منور، تاباں، خوبصورت، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا۔

نضف: ۱۔ نَضَفَ ـُ نَضْفًا ونَضِفَ ـَ نَضَفًا و انْتَضَفَ الفصيل مافي ضرع امه: اونٹنی کے بچے کا اپنی ماں کے تھن سے تمام دودھ چوس لینا۔
۲۔ نَضَفَ ـ نَضْفًا ہُ: کی خدمت کرنا۔
۳۔ نَضَفَ ـُ نَضْفًا الحمارُ: گدھے کا گوز کرنا۔ النَاضِف (فا) و المِنْضَف جمع مَنَاضِف: بہت گوز کرنے والا۔ النَضِف و النَضِيف: ناپاک۔ گندا۔
۴۔ أَنْضَفَ الجملُ: اونٹ کا ڈلکی چلنا۔ ـــ الجملَ: اونٹ کو ڈلکی چلانا۔ النَضَفَان: ڈلکی چال۔
۵۔ أَنْضَفَ الرجلُ: ہمیشہ جنگلی پودینہ کھانا۔ النَضَف (ن): جنگلی پودینہ۔

نضل: ۱۔ نَضَلَ ـُ نَضْلاً ہُ: پر تیراندازی میں غالب آنا۔ نَاضَلَ نِضَالاً و نِيضَالاً و مُنَاضَلَةً ہُ: کا تیراندازی میں مقابلہ کرنا۔ ـــ عنہ: کی حفاظت کرنا، حمایت کرنا، کا دفاع کرنا، تَنَضَّلَ ہُ: کو نکال دینا۔ تَنَاضَلَ القوم: ایک دوسرے پر فخر کرنا، تیراندازی میں مقابلہ کرنا۔ إِنْتَضَلَ ہُ: کو نکالنا، کہا جاتا ہے إِنْتَضَلَ سهما من كنانته: اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا۔ ـــ رجُلاً من القوم او سهما من الكنانة: اس نے ایک مرد کو لوگوں میں سے اور تیر کو ترکش سے پسند کیا۔ ـــ ت الابلُ في السير: اونٹوں کا چلنے میں پاؤں مارنا۔ ـــ القومُ: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ النَاضِل (فا) جمع نُضَّال: تیراندازی میں غالب۔
۲۔ نَضِلَ ـَ نَضَلاً البعيرُ: اونٹ کا لاغر ہونا۔ تھکنا۔ أَنْضَلَ ہُ: کو لاغر کرنا، تھکانا۔

نَضَلَ ـُ نُضُلاً ہ: سے سبقت لیجانا، بڑھ جانا، فائق ہونا، پر غالب آنا، کو شکست دینا۔ نَاضَلَ ہ: سے سبقت لیجانے کی کوشش کرنا، سے مقابلہ کرنا، کا مدمقابل ہونا، سے لڑنا، کا ہم چشم ہونا، سے برابری کرنا، سے مناظرہ کرنا، تکرار کرنا، بحث کرنا۔ ـــ عن: کا دفاع کرنا، کے لئے جدوجہد کرنا۔ تَنَاضَلَ: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ نِضَال: جدوجہد، جھگڑا، فساد، مباحثہ، مناقشہ، نزاع، لڑائی، جنگ، مقابلہ، دفاع، دفاعی جنگ۔ نِضَالِي: جنگجو، لڑاکا، جھگڑالو۔ مُنَاضَلَة: جدوجہد، جھگڑا، لڑائی، جنگ، مقابلہ، دفاع، دفاعی جنگ، مقابلہ، مسابقت۔ مُنَاضِل: لڑنے والا، جنگجو، نبرد آزما۔ جنگ آزما۔ حامی، محافظ، ناصر

نضو: نَضَا يَنْضُو نَضْوًا السيفَ من غمده: تلوار سونتنا، نکالنا۔ ـــ الثوبَ عنه: کے کپڑے اتارنا۔ ـــ الرجُلَ من ثوبه: کو ننگا کرنا، برہنہ کرنا۔ ـــ البلادَ: ملک طے کرنا۔ ـــ السيفُ: تلوار کا پار ہونا۔ ـــ الجرحُ: زخم کا ورم اترنا۔ ـــ الماءُ: پانی کا خشک ہونا۔ ـــ نَضْوًا و نُضُوًّا الخضابُ: خضاب کا رنگ اتر جانا۔ ـــ نَضْوًا و نُضِيًّا الفرسُ الخيلَ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں سے سبقت لیجانا۔ نَضَّى تَنْضِيَةً ثوبَهُ عنه: کے کپڑے اتارنا۔ أَنْضَى إِنْضَاءً الثوبَ: کپڑا بوسیدہ کرنا۔ ـــ البعيرَ: اونٹ کو لاغر کرنا۔ ـــ فلانًا: کو دبلا جانور دینا۔ تَنَضَّى البعيرَ: اونٹ کو لاغر و دبلا کرنا۔ إِنْتَضَى إِنْتِضَاءً السيفَ: تلوار سونتنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑا بوسیدہ کرنا۔ النِضْو جمع أَنْضَاء: بہت مستعمل ہونے کی وجہ سے خراب تیر، بوسیدہ کپڑا۔ ـــ م نِضْوَة: لاغر جانور، لگام کا لوہا، پتلا تیر۔ النُضَاوَة من الخضاب: چھڑا ہوا خضاب، کہا جاتا ہے: اعطني نُضَاوَة حنَّائِكَ: مجھے اپنی گری ہوئی مہندی دو۔ النَضِيّ جمع أَنْضِيَة: لاغر جانور، بے پھل یا پر کا تیر، کاندھے اور کان کے درمیان کا حصہ۔ ـــ من السهم: پر اور پیکان کے درمیان کا حصہ۔

نَضْنَاض: زبان ہلانے والا، ڈستے ہی ہلاک کردینے والا (سانپ)۔

نضاعن نفسه: کپڑے اتارنا، برہنہ ہونا۔ ـــ نَضْوًا و نُضُوًّا: گھٹنا، سکڑنا، ہٹنا، کم ہونا، روبہ تنزل ہونا، [illegible]

marfat.com

نَضْو جمع انضاء: پھٹا ہوا کپڑا۔ نِضْو جمع أَنْضَاء: لاغر، کمزور۔

نضی: نَضَى يَنْضِي نَضْيًا السيفَ: تلوار سونتنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑا اتارنا۔ ـــ و أَنْضَى و انْتَضَى الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔

نط: ۱۔ نَطَّ ـُ نَطًّا الشيءَ: کو باندھنا، کھینچنا۔ ـــ ـِ نَطًّا في الارض: زمین میں جانا۔ ـِ نَطِيطًا: بھاگنا، پھاندنا۔ عقبةٌ نَطَّاء: دور کا درہ۔ النَطَّاط: بہت سیاحت کرنے والا، کودنے پھاندنے والا۔ النَطِيط (مص) مكانٌ نطيط: دور کی جگہ۔ ارض نطيطة: دورافتادہ زمین۔ الأَنْط جمع نُطُط: دور کا سفر۔
۲۔ نَطَّ ـِ نَطًّا: بکواس کرنا۔ النَطَّاط: بکواسی، لغو دعوے کرنے والا۔
۳۔ نَطْنَطَ: دور ہونا۔ ـــ الرجُلُ: لمبے سفر والا ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو کھینچنا۔ تَنَطْنَطَ: دور ہونا۔ النَطْنَط والنُطْنُط و النُطْنَاط جمع نَطَانِط و نَطَانِيط: لمبے قد والا۔

نَطُّ الحبل: رسی پر سے کودنا، رسی پھلانگنا (بچوں کا کھیل) نَط طُولي: چوڑی چھلانگ جست۔ نَطَّة: جست، چھلانگ، پھلانگ۔ نَطَّاط: جست لگانے والا، چھلانگنے والا، جھینگر، بے چین، کم عقل، سنکی، وہمی، خالی دماغ، باولا۔

نطب: ۱۔ نَطَبَ ـُ نَطْبًا ہُ: کو انگلی سے کان پر مارنا۔ نَاطَبَ مُنَاطَبَةً ہُ: کو بھڑکانا، سے جھگڑنا۔ أَنْطَبَ ہُ: کو انگلی سے کان پر مارنا۔ ـــ أذنهُ: کان کو انگلی سے مارنا۔
۲۔ النَاطِبَة: نَوَاطِب کا واحد، چھلنی کے سوراخ۔ النِطَاب: سر، گردن کی رگ۔ المِنْطَب و المِنْطَبَة: چھلنی، صافی۔ المَنْطَبَة: احمق۔

نطح: نَطَحَ ـِ نَطْحًا ہُ الثورُ ونحوُهُ: کو بیل وغیرہ کا سینگ مارنا۔ ـــ فلانًا: کو اپنے سے دور کرنا، ہٹانا۔ نَاطَحَ نِطَاحًا و مُنَاطَحَةً ہ: کو سینگ مارنا۔ تَنَاطَحَ الكَبْشَان: دو مینڈھوں کا ایک دوسرے کو ٹکر مارنا۔ ـــ ت الامواجُ او السيولُ: موجوں یا سیلاب کے پانی کا ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ إِنْتَطَحَ الكبشان: دو مینڈھوں کا ایک دوسرے کو ٹکر مارنا۔ النَاطِح (فا): سامنے سے آنے والا پرندہ، یا وحشی، کہا جاتا ہے: مالهُ ناطحٌ ولاخابطٌ: اس کے پاس کچھ نہیں (ناطح: بھیڑ، مینڈھا، بیل، بکرا، خابط: اونٹ) (فک): منازل قمر میں دو ستارے۔ النَطْح: برج حمل کا ایک ستارہ۔ النواطح: سختیاں۔ النَطِيحَة: نطح کا اسم

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مرة ـ لڑائی۔ النَّطّاح: بہت سینگ مارنے کا عادی۔ النَطِیح م نَطِیحَة جمع نَطْحَی و نَطَائِح: سینگ مارا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، منحوس، گھوڑا جس کی پیشانی میں دو دائرے ہوں۔

◌ نَطَحَ ـــ نَطْحًا: سر یا سینگ سے دھکیلنا، ریلنا، سر یا سینگ گھونپنا، سر یا سینگ سے ٹکر مارنا۔ نَاطَحَ ہ: سے ٹکرانا، کو زور سے مارنا، کو چھونا۔ تَنَاطَحَ و اِنْتَطَحَ: ایک دوسرے کو سینگ گھونپنا، یا سر یا سینگ سے ٹکر مارنا، ایک دوسرے کے ساتھ جدو جہد کرنا۔ نَطْحة: دھکیلنا، ریلنا، سینگ یا سر گھونپنا۔ سر یا سینگ سے ٹکر مارنا۔ نَطّاح: ٹکر مارنے کا عادی، ٹکر مارنے والا۔ نطیح: جسے سینگ مارا گیا ہو۔ مناطحة: سانڈ سے مقابلہ۔ ناطحة السَحاب جمع نَواطِحُ السحاب: بڑی اونچی عمارت (Sky- scraper)

نطر: ۱۔ نَطَرَ ـــ نَطْرًا و نِطَارَةً الكرمَ او الزرعَ: انگوروں یا فصل کی نگہبانی اور حفاظت کرنا، انتظار کے معنی میں بھی مستعمل ہے النَاطِر و النَاطُور جمع نُطَّار و نَطَرَة و نَوَاطِير و نُطَراء: انگوروں اور کھیتی کا رکھوالا۔ (سریانی لفظ) النِطارَة: باغبانی، چوکیداری۔ النُطَّار: کھیت میں جانوروں اور پرندوں کو ڈرانے کیلئے کھڑا کیا جانے والا ڈراوا یا دھوکا۔ ڈراؤنا پتلا۔

۲۔ الناطور: ہیرے کا ایک زیور جو پیشانی کے بالائی حصے پر لٹکایا جاتا ہے۔

۳۔ النَطْرُون: کچا شورہ، خام شورہ (nàtron) خصوصاوہ جو قاہرہ کے شمال مغرب میں واقع وادی نطرون کی نمک کی جھیلوں سے نکالا جاتا ہے۔

◌ نَطَرَ ـ نَطْرًا و نِطارَةَ ہ: کی دیکھ بھال کرنا، رکھوالی کرنا، نَطْر: دیکھ بھال، حفاظت، نگہبانی، نِطارَة: دیکھ بھال، حفاظت، نگہبانی۔ نَطّار: ڈراؤنا پتلا۔ ناطِر جمع نُطّار و نُطَراء و نَطَرَة و نَواطِر: محافظ، پاسبان، نگہبان، مہتمم، داروغہ، سنتری (خصوصا باغوں اور انگور کے باغوں کا) دیہی پاسبان، بحری جہاز میں گھات لگا کر بیٹھنے والا۔ ناطُور جمع نواطیر: محافظ، پاسبان، نگہبان، دیہی پاسبان، بحری جہاز میں گھات لگا کر بیٹھنے والا۔ ناطُورة: سن رسیدہ اتالیق جو کنواری لڑکیوں کو آداب مجلس سکھاتی ہے۔

نطس: نَطِسَ ـ نَطَسًا: ماہر ہونا، دانا ہونا۔ تَنَطَّسَ: گفتگو یا لباس وغیرہ میں بے حد احتیاط کرنا، امور کو گہری نظر سے دیکھنا، کہا جاتا ہے۔ تَنَطَّسَ الاخبارَ و عن الاخبار: خبروں کے بارے میں تجسس و کرید کرنا۔ الناطِس: جاسوس، النَطُس و النَطِس و النَطُس: عالم، گفتگو اور لباس میں بے حد محتاط۔ النُطُس: ماہر اطباء۔ النُطَسَة: بہت احتیاط کرنے والا۔ النِطاسِي و النَطاسِي و النِطِّيس: عالم، ماہر طبیب۔

◌ تَنَطَّسَ عن: کا مکمل جائزہ لینا، کی احتیاط سے تحقیقات کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ ـــ ب: میں بہت مہارت رکھنا یا کو بروئے کار لانا، میں ماہر ہونا۔ نَطُس و نُطُس: اچھی طرح باخبر، واقف حال، ذہین، ہوشمند، فہیم، تجربہ کار، ماہر، آزمودہ کار، نَطَاسِي و نِطاسِي: پوری طرح باخبر واقف حال، ذہین ہوشمند فہیم، تجربہ کار، ماہر، آزمودہ کار جمع نُطُس: ماہر تجربہ کار طبیب۔

نطع: ۱۔ نُطِعَ نَطْعًا و انْتُطِعَ و اسْتُنْطِعَ لونُه: کا رنگ متغیر ہونا۔ النَاطِع: خالص رنگ وغیرہ، بیاضٌ ناطِع: خالص سفیدی۔

۲۔ تَنَطَّعَ فی الكلام: کلام میں غلو کرنا، تالو سے بولنا۔ ـــ فی شهواتِه: خواہشوں میں مبالغہ کرنا۔ ـــ فی عمله: اپنے کام میں ماہر ہونا۔ ـــ الرجُلُ: کھانا چمڑے کے دسترخوان پر رکھنا۔ سیر ہو کر کھانا۔ النَطْع و النَطَع جمع أنطاع و نُطُوع: چمڑے کا فرش جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے یا اذیت دی جاتی ہے۔ النِطْع و النِطَع جمع نُطُوع: تالو کا اگلا حصہ۔ الحروف النِطْعِيَّة ت، د، ط: جن کا مخرج تالو کا اگلا حصہ ہے۔ ـ جمع أنطاع و نُطُوع: بمعنی۔ النَطْع۔ النُطَّع: باچھیں، بھلا کر بولنے والا۔ نِطاعُ القوم: قوم کا علاقہ۔ کہا جاتا ہے: وطئنا نِطَاعَ بنی فلان: ہم نے فلاں قبیلہ کے علاقہ میں قدم رکھے۔ النُطاعَة: وہ لقمہ جس کا آدھا حصہ کھایا جائے اور باقی دسترخوان پر لوٹا دیا جائے۔ النَطَّاع جمع نَطَّاعون: کلام میں غلو کرنے والا، جلد ساز۔ التَنَطُّع فی الكلام: کلام میں غلو

◌ نُطِعَ: رنگ کا متغیر ہونا، پیلا پڑ جانا۔ تَنَطَّع: ضدی ہونا، ہٹ کا پکا ہونا۔ نَطْع و نِطْع جمع أنطاع و نُطُوع: چمڑے کی چٹائی جو بطور میز پوش یا کھیل کے بورڈ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ماضی میں اس پر پھانسی بھی دی جاتی تھی۔ نِطع و نِطَع و نُطُوع: سخت تالو۔

نطف: ۱۔ نَطَفَ ـِـ نَطْفًا و تَنْطَافًا و نَطَفَانًا و نِطافَةً الماءُ: پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔ ـــ ت القربةُ: مشک کا ٹپکنا۔ ـــ الماءَ: پانی گرانا۔ النَاطِف (ط): ایک قسم کی مٹھائی۔ النُطْفَة: ڈول یا مشک میں بچا ہوا تھوڑا سا پانی۔ ـــ جمع نِطاف و نُطَف: صاف پانی تھوڑا ہو یا زیادہ۔ سمندر، مرد یا عورت کا نطفہ۔ النُطْفَتان: دو سمندر، کہا گیا کہ وہ بحر روم اور بحر چین ہیں یا بحر مشرق اور بحر مغرب۔ النُطافَة: ڈول یا مشک وغیرہ میں بچنے والا تھوڑا سا پانی۔ ٹپکنے والی چیز۔ النَطُوف: بارش والی رات، کہا جاتا ہے۔ ليلة نَطُوف: رات جس میں صبح تک بارش ہوتی رہے۔

۲۔ نَطَفَ ـِـ نَطْفًا و تَنْطَفًا و نَطَفَانًا و نِطافَةً ہ: پر بدکاری کا الزام لگانا یا کسی خرابی سے ملوث کرنا۔ نَطِفَ ـ نَطَفًا و نَطَافَةً و نُطُوفَةً: عیب دار ہونا، ملزم ٹھہرایا جانا، تہمت لگایا جانا۔ ـــ الشئُ: چیز کا خراب ہو جانا۔ نُطِفَ نَطَفًا و نُطُوفَةً: عیب دار ہونا، تہمت لگایا جانا۔ نَطَّفَ و أنْطَفَ ہ: پر بدکاری کا الزام لگانا، کسی برائی میں ملوث کرنا۔ تَنَطَّفَ الرجُلُ: عیب دار ہونا۔ ـــ من كذا: سے نفرت کرنا۔ النَطَف (مص): عیب، خرابی، برائی، فساد۔ النَطِف: پلید، شکی مرد،

۳۔ نَطِفَ ـ نَطَفًا و نَطَافَةً و نُطُوفَةً الرجُلُ: کو بدہضمی ہونا۔

۴۔ نَطَّفَ المرأةَ: عورت کو بالی پہنانا۔ تَنَطَّفَتِ المرأةُ: عورت کا بالی پہننا۔ النُطَفَة و النَطَفَة جمع نُطَف: بالی، شفاف موتی۔

◌ نُطْفَة جمع نُطَف: قطرہ، نر کا مادہ تولید، منی (Sperm)

نطق: ۱۔ نَطَقَ ـِ نُطْقًا و مَنْطِقًا و نُطُوقًا: بولنا۔ ـــ الكتابُ: کتاب کا واضح کر کے بیان کرنا۔ نَطَّقَ ہ: کو گفتگو کرانا۔ نَاطَقَ ہ: سے گفتگو کرنا۔ أنْطَقَ ہ: کو گفتگو کرانا۔ تَمَنْطَقَ: علم منطق حاصل کرنا۔ من تَمَنْطَقَ فقد تزَنْدَق: جو منطق کا علم حاصل کر لیتا ہے دہریہ ہو جاتا ہے۔ تَنَاطَقَ الرجلان: دو مردوں کا باہم گفتگو کرنا۔ انتَطَقَ الرجُلُ: بولنا، علم منطق حاصل کرنا۔ اسْتَنْطَقَ ہ: سے گفتگو کرنا۔ سے بولنے کو کہنا۔ ـــ ہ فی اصطلاحِ اصحابِ القانون: پوچھ گچھ کرنا، پر جرح کرنا، اسم استنطاق: پوچھ گچھ، جرح۔ الناطِق فا: بولنے والا الانسان حیوان ناطق: انسان سمجھدار ہے۔ مالهُ ناطِقٌ ولا صامِت: اس کے پاس نہ تو کوئی جانور ہے اور نہ کوئی اور مال۔ كتابٌ ناطِق: واضح کتاب النَاطِقة: الناطق کا مونث: النَفسُ الناطِقة: نفس ناطقہ، نفس انسانی۔ النُطْق (مص): نطق ظاہری (گفتگو) نطق باطنی (فہم و ادراک) ہر دو مراد ہیں۔ (عربی میں النطق الخارجي و النطق الداخلي) النطِق: بولنے والا۔ النَطْقَة: نطق کا اسم مرۃ، کہا جاتا ہے: نطق نَطْقَةً واحدَةً: وہ ایک بار بولا۔ النِطاقِة:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پرچہ، پرزہ کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ مِنطِیق مِنطِیق،
خوش بیان۔ منطق: ج ع عدہ کرو صحیح تَمنطق
مثل کلام غیرہ ز فن میں بھی استعمال ہوتا ہے
کہا جاتا ہے۔ سمعت منطق نصیر میں نے
پرندوں کی بولی کو سنا۔ علم منطق علم
استدلال، منطق، بحث۔ استدلال یا مناظرے کی
قابلیت، ذہانت استدلال یا منطق (Logic)
منطقی منطق دان، منطقی، استدلالی۔ منطوق
عند المنطق جو مفہوم کے خلاف ہو۔
• منطیق خوش بیان۔

۳۔ نطق: کو پٹکا یا پیٹی باندھنا۔ کمر پر پیٹی باندھنا۔
نطقت الاکمة وغیرھا پانی کا ٹیلے وغیرہ کے وسط
تک پہنچنا۔ تنطق و تمنطق کمر میں پٹکا باندھنا۔
ــــ ت المرأة عورت کا کمر میں پٹکا باندھنا۔ ـــ
الارض بالجبال زمین کا پہاڑوں سے گھرا ہونا۔
تنطّق کمر میں پٹکا باندھنا۔ ـــ ت المرأة عورت
کا کمر میں پٹکا باندھنا۔ ـــ ت الارض بالجبال
زمین کا پہاڑوں سے گھرا ہونا۔ انتطق: کمر میں پٹکا
باندھنا۔ ـــ ت المرأة عورت کا کمر میں پٹکا
باندھنا۔ ـــ ت الارض بالجبال: زمین کا پہاڑوں
سے گھرا ہونا۔ ـــ بقومه اپنی قوم سے طاقت ور
ہونا۔ فرسه گھوڑے کو کھینچنا۔ الناطقة: کمر۔
النِطَاق جمع نُطُق: پیٹی، کمر کا پٹکا، جھالر دار پیٹی۔ کہا
جاتا ہے۔ عقد فلانٌ حُبُكَ النطاق: فلاں آدمی
جانے کے لئے تیار ہوا یا کام کے لئے فارغ ہوا۔
نِطاقُ الجوزاء (فلك): وسط جوزاء کے تین
ستارے، جو انتظام اور التئام کے لئے ضرب المثل
ہیں۔ المِنطَق و المِنطَقَة جمع مَناطِق: کمر باندھنے
کا پٹکا یا پٹی۔ کبھی اس سے فعل بنا کر تَمَنطَقَ کہتے
ہیں۔ یعنی کمر پر پٹکا باندھا، باندھنے کی چیز۔
المِنطَقَةُ الكُرَوِيَة: کروی شکل کا علاقہ۔ علو
المنطقة: دو سطحوں کے درمیان عمود۔ مِنطَقَةُ
الجوزاء: تین ستارے۔ منطقة العوّاء: ایک اور
ستارے کا نام المُنَطَّق (مفع): پیٹی یا پٹکا باندھنے کی
جگہ، کمر المُنَطَّقَة من المعز: کمر میں سفیدی رکھنے
والی بکری۔ المُنتَطِق: رفیع الشان، غالب صاحب
رسوخ کہا جاتا ہے: جاء مُنتَطِقًا حصانَهُ: وہ
• گھوڑے کے پہلو میں چلتا ہوا آیا اس پر سوار نہیں ہوا۔
۞ نَطَقَ ـــ نُطقًا و نُطوقًا و مَنطِقًا: صاف تلفظ سے
بولنا۔ ـــ ب: کچھ کہنا، بولنا، کو زبان سے نکالنا، کی آواز
نکالنا۔ نطق بکلمة: کوئی لفظ کہنا۔ نَطَّقَ ہ: کو بولانا،

کو گفتگو کرانا: کو پیٹی وغیرہ باندھنا، کو گھیرنا، حلقے میں
لینا۔ ناطقہ: کو بولا کے گفتگو کرانا۔ تنطّق پیٹی
وغیرہ باندھنا، گھر جانا۔ استنطق ہ: سے سوال کرنا،
پوچھ گچھ کرنا، ـــ سے عدالت میں بیان لینا، پر جرح
کرنا، نُطق صاف گفتگو، تلفظ، کلام، کہنا، زبان سے
کہنا، حکم، فرمان، فیصلہ، ڈگری، صدر نطق
النطق بـ جلالة الملک کے حکم سے فرمان جاری کیا
گیا کہ ـــ نطق بالحکم فیصلہ کا اعلان کرنا،
صادر کرنا۔ فقد النطق گم صم، بے سخن، وفور جذبات
سے ساکت، نُطقی صوتی، آواز سے متعلق، نِطق
جمع نُطُق گھیرا، (گھوڑے کا) تنگ، پیٹی، کمر بند،
پٹکا، محافظ پیٹی، دائرہ، چھلا، انگوٹھی، کڑا، کنڈا، احاطہ،
حد، حد بندی، حدیں، زد، فاصلہ، رقبہ، وسعت،
گنجائش، موقع، رسائی، دسترس، کرہ، حلقہ اثر و اقتدار،
دائرہ اقتدار، عملداری، تعلقہ، علاقہ جاگیر، خیال و عمل کا
میدان، منشائے قانون، متن قانون، پولیس کے
سپاہیوں کا حلقہ، گھیرا۔ نطاق الجوزاء سات
ستاروں کا دائرہ۔ نطاق الحصار ناکہ بندی کا گھیرا،
واسع النطاق: جامع، کشادہ، دور تک پھیلا ہوا، دور
رس، دور رس اثرات والا، بڑے پیمانہ کا۔ مَنطِق:
گویائی (کی صلاحیت)، طرز گفتگو، الفاظ کی چست
بندش، الفاظ کا برمحل استعمال، طرز تحریر، زبان بولی،
گفتگو، تلفظ، اظہار یا بیان، جوش بیانی، خطابت،
طلاقت، فصاحت، منطق، علم، استدلال، لیس من
المنطق أن: یہ بات غیر منطقی ہے کہ علم المنطق:
علم استدلال، منطق مَنطِقی: منطقی، منطق کے
مطابق، مدلل، معقول، قابل تسلیم، ـــ جمع مَناطِقَة:
منطق دان، منطقی، علم کلام کی ماہر کلامی، نقاد، مِنطَق
جمع مَناطِق: پیٹی، کمر بند، پٹکا، مِنطَقَة جمع مَناطِق:
پیٹی، پٹکا، کمر بند، علاقہ، کرہ، قرب و جوار، پڑوس،
قربت، زد، دسترس، رسائی، ضلع، حلقہ اثر، حلقہ اقتدار،
رقبہ، طول و عرض، عملداری، سلطنت، ریاست، حلقہ،
قطعہ، سیکٹر (Sector)، منطقة الاحتلال: مقبوضہ
علاقہ۔ المنطقة الحارة: منطقہ حارہ (Torrid
Zone) منطقة البترول: تیل کا علاقہ، تیل
(نکالنے) کے میدان۔ منطقة البروج: منطقہ
بروج (Zodiac) منطقة الجوزاء: Orien's
belt سات ستاروں کا دائرہ، مطقة حرام یا منطقة
ممنوعة: ممنوعہ علاقہ۔ منطقة الحرب: جنگی
علاقہ۔ منطقه حرّة: آزاد علاقہ۔ منطقة صماء:
(دریا یا ندی کا) مردہ علاقہ منطقة صناعية

منفی علاقہ۔ منطقة نصرت میدان، جو گولیوں
اور توپوں کی زد میں ہو۔ منطقة مُحَرَّمَة کروی علاقہ
منطقتان دو معتدل علاقے۔
منطقة مُحَرَّمَة من التجهيزات الحربية فوجی
تنصیبات وغیرہ سے خالی علاقہ۔ منطقة نفوذ
حلقہ اثر۔ مِنطَقِی علاقائی۔ مِنطِیق بہت خوش
بیان۔ استنطاق امتحان، جانچ پڑتال، پوچھ گچھ،
جرح، تحقیقات، سوال جواب کرنا۔ ناطِق بولنے والا،
گویا، گفتگو کی صلاحیت رکھنے والا، طاقت گویائی رکھنے
والا، خوش بیان، واضح، صاف، بین، صریح، معقول،
عاقل، ذی عقل، (پارلیمنٹ کا) سپیکر، صدر پارلیمنٹ،
ترجمان، نمائندہ۔ ناطق بالضاد عربی بولنے
والے۔ حیوان ناطق ذی عقل (مخلوق) دلیل
ناطق فیصلہ کن دلیل، شہادت، شریط ناطق
ٹاکی، گویا فلم (Sound film)۔ جریدة ناطقه
روزانہ خبروں کی فلم (News reel) مَنطُوق
اعلان کردہ، تلفظ کردہ، کہا ہوا، بولا ہوا، ظاہر کیا ہوا، طرز
ادا، طرز بیان، الفاظ کی بندش، انتخاب الفاظ، اظہار
مفہوم کے لئے الفاظ کا استعمال، متن، بیان، تشکیل،
منضبط کیا ہوا (قاعدہ، ضابطہ) بالمنطوق متن کے
مطابق، صراحت سے، تاکید سے، صراحتاً، صاف
صاف، تفصیل وار، غیر مبہم طور پر، منطوق العَقد
عہد کی محتاط شرائط۔ منطوق الحُكم قانون کا
متن، قانونی متن۔ منطوق الکلمة لفظ کے
ظاہری معنی۔ مُستَنطِق: بیان لینے والا مجسٹریٹ۔

نطل: ا۔ نَطَلَ ـ نَطلاً الخمرَ: شراب نچوڑنا، ـ نَطَّلَ
راسَ العلیل بالنَطُول: بیمار کے سر پر دوا کا نیم گرم
پانی تھوڑا تھوڑا کر کے گرانا۔ اِنتَطَلَ من الزقِ: مشک
سے نیم گرم پانی تھوڑا سا گرانا یا لینا۔ النَطل (مص):
انگور کا چھلکا، تھوڑا دودھ، شراب کی تلچھٹ، النطل:
شراب کی تلچھٹ۔ ابتدائی عمدہ شراب کے بعد کی
نچوڑی ہوئی شراب۔ النُطلَة: شراب یا پانی یا دودھ
وغیرہ کا گھونٹ۔ الناطِل: بمعنی النطلة: پیمانے میں
بچنے والا فضلہ۔ کہا جاتا ہے: ماظفرت منه بناطِل:
مجھے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ـــ و النَاطَل و النا
طِل جمع نَواطِل: شراب یا دودھ وغیرہ ناپنے کا برتن۔
النَطُول: دوا میں جوش دیا ہوا پانی جس سے عضو ماؤف
پر دھاریں ماری جائیں۔ المِنطَل جمع مَناطِل:
شراب یا دودھ وغیرہ ناپنے کا برتن۔ ڈول۔
المناطِل: شراب کشی کی مشینیں۔
النَيطَل جمع نَياطِل: ہلاکت، موت۔ ـــ و النَطَلاء:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مصیبت۔ الأنطِلَة: مصیبتیں

○ نَطَلَ ـُ نَطْلاً ہ کو نچوڑنا، پر گرم پٹی لگانا، کو سینکنا، کو گرم پانی یا دوا کے سیال سے دھونا۔ نَطُول: گرم پٹی، گدی، وہ چیز جس کا سینک دیا جائے، دھونا یا دوا ملے سیال میں غسل دینا۔

نطو: ا۔ نَطَا یَنْطُو نَطْوًا الحبلَ: رسی کھینچنا۔ الغزلَ: بانا تننا۔ ـــ المنزلُ: منزل دور ہونا۔ ناطَى مُناطَاةً الرجُلَ: سے باہم نزاع کرنا، سے مقابلہ کرنا، انْطَى: دینا، تَنَاطَى القومُ: ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تَنَاطوا الكلامَ: آپس میں گفتگو یا بحث کرنا۔ النَّطْو: دوری، النَّطَاة جمع انْطاء: کچی کھجور کا ڈنٹھل۔ النَّطِيّ: دور، طريق نَطِيّ: لمبا راستہ۔ ـــ والمَنْطُوُّ من الغزل: تانا ہوا سوت۔

۲۔ نَطَا يَنْطُو نَطْوًا عن فلان: سے چپ رہنا۔

۳۔ نَطَّى الحائِطُ: دیوار کا گیلا ہو جانا (بارش سے)

نظر: نَظَرَ ـُ نَظَرًا ومَنْظَرًا ومَنْظَرَةً و تَنْظَارًا و نَظَرانًا ہُ واليه: کو دیکھنا غور سے دیکھنا۔ ـــ نَظَرًا في الأمر: کو سوچنا، پر فکر کرنا، کا اندازہ کرنا۔ ـــ الشيءَ: کا انتظار کرنا، کو مہلت دیکر بیچنا۔ ـــ بين الناس: لوگوں کے درمیان حکم کرنا، فیصلہ کرنا۔ ـــ للقوم: پر رحم کرنا، کو مدد دینا۔ ـ فلانًا: کی طرف متوجہ ہونا، ـــ فلانًا الدينَ: کو قرض ادا کرنے کی مہلت دینا۔ ـــ فلانٌ: کاہن ہونا کہا جاتا ہے: انظر لي فلانًا: میرے لئے فلاں کو طلب کرو، داري تنظر دارَہ: میرا گھر اس کے گھر کے بالمقابل ہے۔ نظر الدهرُ إلى بني فلان: زمانہ نے فلاں قبیلہ والوں کو ہلاک کر دیا۔ نَاظَرَ مُنَاظَرَةً ہُ: کا مشابہ ہونا، کے برابر ہونا۔ ـــ فلانًا بفلان او الشيءَ بالشي: کا سے مقابلہ کرنا، کو کے مشابہ کرنا، کہا جاتا ہے داري تناظر دارَہُ: میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے۔ ـ الجيشُ الالفَينِ: لشکر دو ہزار کے قریب پہنچ گیا۔ نَظَّرَ الرجُلَ: کو مہلت دینا، کو ادھار چیز فروخت کرنا۔ ـ ہُ الدينَ: کو ادائیگی قرض کے لئے مہلت دینا۔ ـــ فلانًا لفلان: کو کے مشابہ بنانا۔ تَنَظَّرَہُ: کو آنکھ سے بغور دیکھنا، دیر کرنا، مہلت دینا۔ ـ فلانٌ: جس کا انتظار تھا اس کی توقع کرنا۔ تَنَاظَرت الداران: دو گھروں کا آمنے سامنے ہونا۔ ـــ القومُ: ایک دوسرے کو دیکھنا۔ تناظرا في الامر: میں باہم مشقت اٹھانا، بحث کرنا۔ إنْتَظَرَہُ: کا انتظار کرنا، کی امید رکھنا، کو دیر لگانا۔ إسْتَنْظَرَہُ: کا انتظار کرنا، سے مہلت چاہنا۔ النَاظِر (فا): آنکھ، آنکھ کی پتلی، (ع ا) پیشانی سے نتھنوں تک کی ہڈی، مہتمم، هو شديد الناظر: وہ تہمت سے بری ہے۔ آنکھیں بھر کر دیکھتا ہے۔ ـ جمع نُظَّار: ناظم ادارہ جیسے ناظم وزارت خارجہ اور ناظر وزارت خزانہ (ناظر الخارجية، ناظر المالية) انگور کے باغ کا محافظ، کھیتوں کا چوکیدار۔ النَاظِران (ع ا): ناک کے دو پہلوؤں کی دو رگیں۔ الناظِرة جمع نَوَاظِر: الناظر کا مونث، آنکھ۔ النواظِر (ع ا): آنکھوں کی رگیں جو سر تک پہنچتی ہیں۔ الناطُور: انگوروں کے باغ یا کھیتوں کا محافظ، چوکیدار۔ النظّارة: تماشائی، ناظرین، دور بین، عام لوگ ناضور کہتے ہیں۔ ـــ والناظورة مفرد جمع مذکر و مونث: قوم کا سردار۔ النظر: مثل، مشابہ۔ النَظَر (مص): نگاہ، بصیرت، دانائی، ہمسایہ لوگ۔ علم النَظَر والاستدلال: علم کلام، کہا جاتا ہے: في هذا الامر نَظَرٌ: یہ معاملہ قابل غور ہے۔ بَيننَا نَظَرٌ: ہمارے درمیان اس قدر دوری ہے کہ نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ :نظراً إلى كذا وبالنظر إلى كذا یعنی اس کے لحاظ سے، فلانٌ تحت نظر فلان: وہ اس کے زیر حمایت ہے یا زیر التفات ہے۔ النَظْرَة: نظر کا اسم مرہ۔ لمحہ، ایک نگاہ، ہیبت، بری ہیئت، برائی، رحمت۔ نظره بعين النَظْرَة: اس نے اسے مہربانی کی نظر سے دیکھا۔ النَظِرَة: مہلت، تاخیر۔ النَظَرِي: نظر سے منسوب، نظری (ضد عملی) النظرية جمع نَظَرِيّات ہ نظریہ، جو صحت کے لئے دلیل کا محتاج ہو۔ نَظَارِ: انتظار کر۔ (امر کا اسم فعل) النِظَار والنِظارَة: فراست، دانائی۔ النَظَارَة عند ارباب السياسة: ناظم کا کام اور مقام۔ وزارت۔ نظارة الخارجية: وزارت خارجہ۔ نظارة المالية: وزارت خزانہ۔ النظّار: تیز دیکھنے والا۔ فرسٌ نَظَّارٌ: آتش مزاج گھوڑا۔ النَظّارة: تماشائی، ناظرین، دور بین۔ النَظُور: دلچسپی کے معاملات کی تحقیق میں غفلت نہ کرنے والا۔ ـــ (مفرد و جمع مذکر و مونث): قوم کا سردار۔ النَظُورَة (مفرد جمع مذکر مونث) قوم کا سردار۔ نَظُورَة القوم او الجيش: ہراول دستہ۔ النَظِير (فلك): کرہ سماوی کی وہ سمت جو پیروں کی عین سیدھ میں ہے۔ سمت الرجل: سمت القدم۔ نظير السَمْت: سمت القدم (Nadir)۔ ـ جمع نُظَرَاء م نَظِيرة جمع نَظَائِر: مثل، مساوی، کہا جاتا ہے: فلانٌ نظير فلانٍ: دونوں میں سے ہر ایک کی آنکھ دوسرے کو دیکھ رہی ہے۔ النَظِيرة (مفرد جمع مذکر مونث) قوم کا سردار۔ نظيرةُ القوم او الجيش: ہراول دستہ۔ نَظَائِر القوم: قوم کے شرفاء۔ المنْظَر جمع مَنَاظِر: نظارہ، کہا جاتا ہے: فلانٌ في منظري و مُسْتَمَعِي: فلاں شخص کی طرف دیکھنا اور اس کی باتیں سننا مجھے پسند ہے۔ كنت عن هذا المقام بمنظر: میں اس مقام سے علیحدہ تھا۔ المَنَاظِر: بلند زمینیں۔ عِلمُ المَنَاظِر: وہ علم جس کے ذریعے اشیاء کی مقدار دیکھنے والے کی نظر سے قریب یا بعید ہونے کے لحاظ سے معلوم ہو۔ المَنْظَرة (مص): منظر (اچھا یا برا) بلند زمین یا عمارت جس سے دیکھا جائے۔ کسی چیز کو دیکھنے والے لوگ۔ المَنْظَرِي والمَنْظَراني: خوش نما۔ المِنْظَار جمع مَنَاظِير: آئینہ۔ المُنَاظِر (فا): مثل۔ شكلان مُتَنَاظِران: متناسب و متوازن شکلیں۔ المَنْظُور (مفع): وہ شخص جس کی بھلائی کی امید رکھی جائے۔ نظر بد لگا ہوا۔ المَنْظُورَة: المنظور کا مونث۔ مصیبت، امرأة مَنْظُورَة: عیب دار عورت۔

○ نَظَرَ ـُ نَظَرًا و مَنْظَرًا ہ/ ہ/ إلى: کو دیکھنا، گھورنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، چھلتی ہوئی نظر ڈالنا، پر توجہ دینا، ـــ ہ: کی امید کرنا توقع کرنا۔ ـــ ہ/ في: پر غور کرنا، غرض ہونا، مقصد ہونا۔ ـ إلى: کو ذہن میں رکھنا، نگاہ میں رکھنا، پر توجہ کرنا۔ ـ في: (عدالت کا) مقدمہ سننا، کی طرف توجہ کرنا، کی تحقیقات کرنا۔ ـ ہ/ في: کی پڑتال کرنا۔ ـ بين: مقدمہ کے دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ ـــ لِ: کا خیال رکھنا، کی مدد کرنا، کی دیکھ بھال کرنا۔ نظر اليه شَزَرًا: کو کنکھیوں سے دیکھنا، شک و شبہ کی نظروں سے دیکھنا، کو پہلو کی طرف سے دیکھنا۔ نظر القضيةَ يا في القضية: مقدمہ کی سماعت کرنا۔ نظر في طلب فلان: کی درخواست پر عمل کرنا، نگہداشت کرنا، نظر من فُرْجَةِ المفتاح او فُوهَةِ المفتاح: سوراخ سے جھانکنا۔ انْظُر بَعْدَہُ: نیچے دیکھو۔ انْظُر ظَهْرَہُ: دوسری جانب یا پشت پر دیکھو۔ ورق پلٹئے۔ نَظَّرَ بين: کے درمیان مقابلہ کرنا، کے درمیان موازنہ کرنا۔ نَاظَرہ/ ہ: کو برابر کرنا، کے برابر ہونا۔ ـ ہ و ہ ب: کو کے برابر کرنا، کو کے برابر درجہ پر رکھنا، کو کے برابر درجہ دینا، کو سے تشبیہ دینا، ـــ ہ: سے مقابلہ کرنا، کے خلاف مقابلہ میں حصہ لینا، کے مقابلہ میں ہونا، کا حریف یا رقیب ہونا، سے بحث کرنا، جھگڑا کرنا، ـــ ہ ب: پر کچھ واضح کرنا، کو کے روبرو کرنا، کو سے دوچار کرنا۔ ـــ ہ: کی نگرانی کرنا، کا انتظام کرنا۔ انْظَرَہ: کو مہلت دینا۔ تَنَظَّرَ ہ/ ہ: کو توجہ سے دیکھنا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ ـ: انتظار کرنا، موقعہ کی تاک میں ہونا، موقعہ کا انتظار کرنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تَـنَاظَرَ: ایک دوسرے کا سامنا کرنا، کے مقابل ہونا، متناسب ہونا، متوازن ہونا، ایک دوسرے سے جھگڑنا، بحث کرنا ــ علی: کے بارے میں لڑنا جھگڑنا، پرلڑنا، کیلئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، پر حق کے لئے جدوجہد کرنا۔ اِنْتَظَرَهُ: کا انتظار کرنا۔ ـــ ہ/ ھ کی توقع کرنا، ـــ ھ کی راہ دیکھنا، کی توقع کرنا۔ ـــ ہ: کو بغور دیکھنا ـــ: متوقع طور پر دیکھا کرنا، انتظار کرنا، موقع کی تاک میں ہونا، موقع کا انتظار کرنا، انتظر من وراءہ کل خیر میں بڑی سے بڑی توقعات رکھنا۔ اِسْتَنْظَرَ: انتظار کرنا، راہ دیکھنا، توقع کرنا، صبر کرنا، صابر ہونا، مہلت کی درخواست کرنا۔ ـــ ہ: کو انتظار کرنے کیلئے کہنا، کو انتظار میں رکھنا۔ نَظَر جمع اَنْظَار: دیکھنا، نظر، تصور، خواب۔ نظر یہ، نقطہ نظر، نقطۂ نگاہ، زاویہء نگاہ، وسیع منظر، وسیع ذہنی میدان، منظر، نظارہ، چہرہ شکل، رخ، پہلو، ظہور، شکل، شہادت، گواہی، بصیرت، معرفت، گہری نظر، پرکھ، پہچان، تیز فہمی، ذکاوت، فہم و فراست، نفوذ، رسائی، ادراک، احساس، شعور، تصور، دھیان، سوچ بچار، غور و فکر ـــ (فی: کی) جانچ پڑتال۔ معائنہ، مطالعہ، ملاحظہ، غور، فکر، اندیشہ، فلسفیانہ غور و فکر، نظر یہ، قیاس، رائے ـــ (فی): کی مقدمہ کی سماعت انتظام، نگرانی، دیکھ بھال، کنٹرول، کڑی نگرانی، قابلیت، دائرہ اختیار، توجہ، دھیان، لحاظ، خیال، بجا آوری، تعمیل، نظراً الی یا نظراً ل: کے پیش نظر، کرنے کے خیال سے، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کے بارے میں، کے متعلق، کی بابت، کی بنیاد پر، کی وجہ سے، کے باعث۔ بالنظر لِ: (مندرجہ بالا معانی میں)۔ بصرف النظر عن یا بقطع النظر عن: سے قطع نظر، بلالحاظ، تحت النظر: زیر غور، زیر مطالعہ، سے نبٹا جا رہا ہے۔ دون النظر إلى: سے قطع نظر، فی نظری: میری رائے میں۔ للنظر فی: کے مطالعہ کیلئے، پر غور کیلئے، کی مزید جانچ پڑتال کیلئے، سے نبٹنے کیلئے، پر کارروائی کے لئے، اعادة النظر: دوبارہ جانچ پڑتال، دوبارہ غور و فکر، دوبارہ آغاز، از سر نو آغاز، دوبارہ سماعت، دوبارہ غور۔ اهل النظر: خیالی مفکرین، نظریات قائم کرنے والے، اصول مقرر کرنے والے۔ بعید النظر یا طویل النظر: دور آخر بین۔ قِصر النظر: کوتاہ بینی قصیرا لنظر: کوتاہ بین۔ المحکمة ذات النظر: سماعت کی مجاز عدالت۔ مسألة فیها نظر: غیر حل شدہ مسئلہ۔ من لـه نظر: قابل ذکر شخص، ممتاز شخص، ذمہ دار یا مجاز شخص۔ اخذ بالنظر: نظریں چار ہونا۔ سَارَقَ النظر الیه یا سارقه النظر یا استرق النظر الیه: کی طرف چوری چھپے دیکھنا، کو پوشیدہ طور پر دیکھنا۔ فی هذا الامر نظرٌ: یہ معاملہ محتاط مطالعہ کا متقاضی ہے، اس معاملہ پر غور کرنا ہوگا۔ قطع النظر عن: کو نظر انداز کرنا، کی پرواہ نہ کرنا، هو تحت نظرِ فلان: وہ فلاں کی حفاظت میں ہے، فلاں اس کا سرپرست ہے۔ عدیمُ النظر: بے مثل، بے نظیر، منفرد، بے مثال، فقید المثال۔ ناظور: فیلڈ گلاس field glass۔ منظر عام: عام منظر، مناظر طبیعیة: خشکی کے منظر۔ مَنْظَرہ: خشکی کا منظر، منظر، نظارہ، سیر بین (panorama)، نگہبانی کا برج، رصد گاہ، مہمان کا کمرہ، کمرہ استقبال، دیوان خانہ، بیٹھک۔ مِنْظَر: عینک، چشمہ، دوربین، چھوٹی دوربین (Spy Glass)۔ مِنظار جمع مَنَاظِیر: دوربین telescope، چھوٹی دوربین (Spy glass)، کلاں نما (magnifying glass) آئینہ۔ نظیرَ: کے معاوضہ کے طور پر، کے پیش نظر، کے بدلہ میں، کے عوض، کے بدلے، نظیرَ دفع خمسین ملیما: پچاس ملیم کی ادائیگی پر۔ نظراؤہٗ: اس جیسے لوگ، لیس لہ نظیر، مقطوع النظیر یا منقطع النظیر: بے مثال، بے نظیر۔ مِنْظار مُعظِّم: کلاں نما Magnifying glass۔ رقب بمنظار اسود: ہر چیز کے تاریک پہلو کو دیکھنا۔ تَنَاظُرٌ: اختلاف رائے۔ فضول جھگڑا، جھگڑا، لڑائی جھگڑا، جیص بیص۔ علی غیر انتظار: غیر متوقع طور پر۔ بین ناظریه: اس کی آنکھوں کے سامنے۔ منظور الیه: زیر نگرانی، ماتحت، گماشتہ، کارندہ، متوسل، زیر حمایت شخص، غیر منظور: غیر مرئی، جو نظر نہ آسکے، غیر متوقع، دعوی منظورة: زیر التواء مقدمہ۔ الشخص المنظور فی امرہ: وہ شخص جس کا مقدمہ زیر غور ہو۔

نظف: نَظُفَ ـُ نَظَافَةً الشیُّ: صاف ستھرا ہونا۔ صفت نظیف م نظیفة جمع نُظَفاء: کہا جاتا ہے، فلانٌ نظیف السراویل: فلاں شخص پاکدامن ہے۔ فلانٌ نظیف الاخلاق: فلاں مہذب ہے۔ نَظَّفَ الشیَّ: کو صاف ستھرا کرنا۔ تَنَظَّفَ الشیُّ: صاف ستھرا ہونا۔ ـــ الرجلُ: صاف ستھرا بننا، نیک ہونا۔ اِنْتَظَفَ الفصیلُ مافی ضرع امه: اونٹ کے بچے کا اپنی ماں کا سب دودھ پی جانا۔ اِسْتَنْظَفَ: صاف ستھری (چیز) طلب کرنا۔ ـــ الوالی الخراجَ: سب خراج وصول کرنا۔ ـــ فلانٌ الشیَّ: سب کا سب لے لینا۔ ـــ الفصیلُ مافی ضرع امه: اونٹنی کے بچہ کا اپنی ماں کا سب دودھ [illegible]

○ نَظَافَةٌ: صفائی، صفائی پسندی، اَنظف: زیادہ صاف نَظِیف: صاف ستھرا، بنا سنورا۔ تَنظِیفُ الأظفار: ناخن تراشنا، ناخنوں کی صفائی۔

نظم: نَظَمَ ـِ نَظْمًا و نِظامًا اللؤلؤَ ونحوَهٗ: موتی پرونا۔ نَظَمُ الشِعْرِ: شعر کہنا۔ ـــ الشیءَ الی الشیءِ: چیز کو چیز سے جوڑنا۔ ـــ الامرَ: کو قائم کرنا، برپا کرنا۔ نَظَّمَ اللؤلؤَ والشعرَ: موتی پرونا، شعر کہنا۔ نَظَّمَ و اَنظَمَت السمکةُ او الدجاجةُ: مچھلی یا مرغی کا انڈوں والی ہونا۔ تَنَظَّمَ اللؤلؤُ ونحوهُ: موتی وغیرہ کا لڑی میں پرویا جانا۔ ـــ الامرُ: کام کا درست ہونا۔ تَنَاظَمَ اللؤلؤُ ونحوهُ: موتی وغیرہ کا پرویا جانا۔ ـــ ت الصخورُ: چٹانوں کا ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا۔ اِنْتَظَمَ اللؤلؤُ ونحوهُ: موتی وغیرہ کا لڑی میں پرویا جانا۔ ـــ الامر: کام کا درست ہونا۔ ـــ الصیدَ: شکار کو نیزے یا تیر سے چھید دینا۔ ـــ النظم (مص): ٹڈی دل، ٹڈیوں کی ایک قطار، نظم کیا ہوا، موزوں کلام، بعض ستارے جیسے (ثریا۔ نطاق الجوزاء والدَبَران: سات سہیلیوں کا جھمکا، پروین، برج ثور میں پانچ ستارے۔) النِظام (مص): طور طریقہ، رواج، طرز عمل، عادت، کہا جاتا ہے: مازال علی نظامٍ واحدٍ: وہ ابھی تک ایک ہی طریقہ پر چل رہا ہے۔ ـــ من الرمل: ریت کا ڈھیر۔ من الجراد والنخل ونحوها: ٹڈیوں یا کھجور کے درختوں کی قطار۔ ـــ جمع نُظُم: موتیوں کی لڑی کا دھاگا۔ نظامُ الامر جمع نُظُم و اَنظِمَة و اَناظِیم: دارومدار، نظام، کوبر نیك (فلك): کوپرنیک کا نظریہ کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے اور زمین اور سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ جبکہ بطلیموس کے نظریہ کے مطابق سورج اور سیارے اور ستارے زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ النظامان و الأنظامان والأُنظومتان جمع اَناظِیم من السمکة او الضبة: مچھلی یا چھپکلی میں دم سے کان تک دو سفید دھاریاں۔ العسکر النظامی: منظم اور جنگ کی تربیت حاصل کردہ فوج۔ النَظّام: بہت پرونے والا۔ النظیم: موزوں شعر وغیرہ۔ الأُنظام: لڑی کا دھاگا، مچھلی یا چھپکلی کی انڈے دانی میں انڈوں کی قطار، ریتلی پہاڑیوں کی قطار، المَنظِم جمع مَناظِم: ترتیب دینے کی جگہ۔ المنظوم (مفع) شعر۔

○ نَظَمَ ـ نَظْمًا و نِظامًا و نَظَّمَ: موتی پرونا، کو ترتیب سے رکھنا، کو قرینے یا سلیقے سے لگانا، کی صف بندی کرنا، کو ترتیب دینا، کی درجہ بندی کرنا، کو مسلسل میں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لگانا، کا سر ٹھیک کرنا، کو تیار کرنا، کو ٹھیک کرنا، کی تصحیح کرنا، کو یکجا کرنا، ٹولیاں میں ٹولی بنانا، ٹولیوں میں بانٹنا، کو اکٹھا کرنا (کمی وغیرہ) پوری کرنا، کو منظم کرنا، کو شاندار طریقے سے کرنا، شعر کہنا، کو ترتیب دینا، سنوارنا، موزوں کرنا، نظم کرنا، شعر لکھنا۔ تَنَظَّمَ و تَنَاظَمَ: پرویا جانا۔ ترتیب پانا، اچھی ترتیب میں ہونا، اچھی طرح منظم ہونا۔ انتظم بمعنی تَنَظَّمَ و تناظَمَ نیز اِنْتَظَمَ: درجہ بندی میں ہونا۔ — فی: سے ملحق ہونا، کسی تنظیم میں شامل ہونا۔ ہ/ ھ: میں بھر جانا، میں سرایت کرنا، میں رچ بس جانا، میں پھیل جانا، — ہ: پر غالب آنا، کو زیر کرنا، پر قابو پانا، پر قبضہ کرنا۔

نظم: ترتیب، انتظام، نظام، طریق، طرز، دستور، رواج، تنظیم، موتیوں کی لڑی، نظم، منظوم چیز، موزوں کلام، شعر گوئی، اشعار نظام جمع نظامات و نُظُم و أَنْظِمَة: مناسب انتظام، باقاعدگی، مطابقت، موافقت، موزونیت، التزام، باضابطہ بنیادی ڈھانچہ، تنظیم، ترتیب، طریقہ، اسلوب، قاعدہ، نظام، تحریری قانون، قاعدہ، قانون، ضابطوں اور قاعدوں کا نظام، علی هذا النظام: اس طرح۔ نظام الاجانب: غیر ملکی حیثیت۔ نظام الاحوال الشخصية: انفرادی، نجی یا ذاتی تحریری قانون، نظام أساسی: (بنیادی) آئینی قانون، آئین، دستور، نظام اقتصادی: معاشی نظام۔ نظام البادية: زرعی نظام۔ نظام البوليس و الادارة: پولیس اور انتظامی نظام۔ نظام جوازات السفر: پاسپورٹ سسٹم، نظام الحياة: طرز زندگی۔ النظام الرأسمالي: سرمایہ دارانہ معاشی نظام۔ النظام العام: عام نظم وضبط۔ نظام المرور: آمدورفت (ٹریفک) کے قوانین۔ نِظامی: پرامن، باقاعدہ، عام طریقے کے مطابق، منظم، باقاعدہ (فوج)۔ تنظيم: ترتیب، دوبارہ ہم آہنگی، دوبارہ تنظیم، اصلاح، کنٹرول، قاعدہ، ترتیب فوج کا فن، مصافیات، تدبیر، سڑک کی تعمیر، تنظيم المرور: ٹریفک کنٹرول، اعادة التنظيم: دوبارہ تنظیم، انتظام، ترتیب، باقاعدگی، باضابطگی، باقاعدہ ترتیب، بانتظام: باقاعدہ، مقررہ، بالترتیب، باضابطہ، دانستہ، بالمقصد، درست، عام، ناظم: ترتیب دینے والا، تنظیم کرنے والا، قرینہ سے لگانے والا، ضابط، حرکت کو منظم رکھنے والا، شعر کہنے والا، نظم کرنے والا، شاعر جمع نواظم: دریا پر بنایا جانے والا بند، پشتہ، منظوم: ترتیب دیا ہوا، باترتیب، باضابطہ، باقرینہ، صاف ستھرا، وزن اور بحر میں کہا ہوا، شاعرانہ نظم، منظومات: اشعار، شعری تخلیقات۔ منظومة: نظم میں لکھا ہوا مقالہ، پند آموز نظم، قطار، صف، درجہ، عہدہ۔ مُنَظِّم: ترتیب دینے والا، تنظیم کرنے والا، ترقی دینے والا، ضامن، جیش مُنَظَّم: باقاعدہ فوج، غیر مُنَظَّم: بے قاعدہ۔ مُنَظَّمة جمع مُنَظَّمات: تنظیم، منظمة التغذية و الزراعة: خوراک اور زراعت کی انجمن، F.A.O (Food and Agriculture Orgenization)۔ مُنتَظِم: باقاعدہ، یکساں، ایک سا، لگاتار، متواتر، مسلسل، موجات منتظمة: یکساں لہریں۔

نع: ا۔ النَّعّ: کمزور مرد، النُّعاع واحد نُعاعة: نرم و نازک گھاس، نبات۔

۲۔ نَعْنَعَ لِسانُ فلان: کی زبان میں ہکلاپن ہونا۔ تَنَعْنَعَ الشيءُ: مضطرب ہونا، لڑکھڑانا، ڈگمگانا، — عنه: سے دور ہونا، النَّعنَع واحد نَعنَعة (ن): پودینہ۔ النُّعْنُعَة: جانور کا پوٹا۔ النُّعناع واحد نُعناعة (ن): پودینہ۔ النُّعنوع: تازہ، نرم، لطیف۔ ولدٌ نعنوع: نرم و نازک لڑکا۔ بنت نُعْنوعة: نرم و نازک لڑکی۔

نعب: نَعَبَ ـِ نَعْبًا و نُعابًا و نَعِيبًا و نَعَبانًا و تَنْعابًا الغرابُ: کوّے کا کائیں کائیں کرنا، جدائی سے ڈرانا۔ — المؤذِّنُ: موذن کا اپنی گردن لمبی کر کے اذان دینا۔ — نَعَبَاتِ الابلُ: اونٹوں کا چلتے ہوئے گردنیں دراز کرنا۔ النَّعب مص۔ ريحٌ نعبٌ: تیز ہوا۔ ناقةٌ ناعبةٌ جمع نَوَاعِب و نُعُوبٌ جمع نُعُب: تیز رفتار اونٹنی۔ النَّعّاب: مبالغے کا صیغہ (ح) کوّے کا بچہ۔ ناقة نَعّابة: تیز رفتار اونٹنی۔ المِنعَب و المُنْعِب: تیز رفتار اونٹنی، تیز رفتار گھوڑا جو کوّے کی طرح اپنی گردن دراز کرتا ہے۔ چلانے والا بے وقوف۔

○ نعّاب: کائیں کائیں کرنے والا، منحوس، بدشگونی دینے والا۔

نعت: نَعَتَ ـَ نَعْتًا ہُ: کی تعریف کرنا، کو بیان کرنا۔ — الكلمةَ: لفظ کی صفت لانا۔ نَعِتَ ـَ نَعَتًا: اچھی صفات دکھانا۔ نَعُتَ ـُ نَعاتةً الرجلُ: پیدائش سے ہی اچھی صفات والا ہونا۔ — الفرسُ: گھوڑے کا تیز رفتار ہونا۔ اِنْعَتَ الرجلُ: خوبصورت چہرے والا ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا۔ تَنَعَّتَ الشيءَ: کا وصف بیان کرنا۔ تَناعَتَ ہُ الناسُ: لوگوں کا کسی کی تعریف کرنا۔ اِنْتَعَتَ ہُ: کی تعریف کرنا۔ — ت المرأةُ بالجمال: عورت کا خوبصورتی سے متصف ہونا۔ اِسْتَنْعَتَ ہُ الشيءَ: سے چیز بیان کرنے کی درخواست کرنا۔ النَّعت (مص) جمع نُعوت: صفت — والنَّعْتة والنَّعِيت و النَّعِيتة و المُنتَعِت مِن الخيل: گھوڑ دوڑ میں سبقت لیجانے والا گھوڑا۔ شیٔ نَعْتٌ: بہت عمدہ چیز، هو نُعْتةٌ: وہ بہت اونچا یا خوبصورت ہے۔

○ نَعَتَ ـ نَعْتًا ہ/ ھ: کا ذکر کرنا، کو بیان کرنا، کی خاصیت بیان کرنا، کا امتیازی وصف بیان کرنا۔ — ھ: کی صفت ہونا۔ نَعْت: بیان، وصف، خوبی، سیرت، یا خصلت نگاری، جمع نُعوت: خصوصیت، خاصیت، وصف، خصلت، صفت، خاصہ، گُن، طبعی خصوصیت، نمایاں صفت، فطرت، خو، عادت، توضیحی، تعریفی اور صفت سے متصف کرنے والا لفظ صفت، وصف، خاصہ، لقب، نام۔

نعث: ا۔ نَعَثَ ـ نَعْثًا و انْتَعَثَ الشيءَ: کو لینا۔ أَنْعَثَ في ماله: مال میں فضول خرچی کرنا، مال کو بے جا صرف کرنا۔ — الرجلُ: سفر کیلئے سامان لینا۔ — القومُ: کام میں جدوجہد کرنا۔

۲۔ نَعْثَلَ الشيءَ: کو جمع کرنا۔ — الفرسُ في جريه: تیز دوڑنے سے گھوڑے کا پاؤں پر بیٹھ جانا۔ النَّعْثَل: بے وقوف بوڑھا۔ (ح) نر بجو۔ النَّعْثَلة: حماقت، بوڑھے کی چال۔

نعج: نَعَجَ ـُ نَعَجًا و نُعُوجًا اللونُ: رنگ کا خالص سفید ہونا۔ نَعِجَ ـَ نَعَجًا و نُعُوجًا اللونُ: رنگ کا خالص سفید ہونا۔ — نَعَجًا البعيرُ: اونٹ کا موٹا ہونا — الرجلُ: بھیڑ کا گوشت کھا کر بدہضمی میں مبتلا ہونا، صفت نَعِج۔ أَنْعَجَ القومُ: موٹے اونٹوں والے ہونا۔ النَّعَج (مص): خالص سفیدی۔ النَّعْجة جمع نِعاج و نَعَجات (ح): بھیڑ۔ الناعجة جمع نَوَاعِج من النساء او النون: سفید رنگ عورت یا اونٹنی۔

۲۔ نَعَجَ ـُ نَعْجًا و نُعُوجًا ت الناقةُ في سيرها: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ ناقةٌ ناعِجةٌ جمع نَوَاعِج: تیز رفتاری اونٹنی جس پر بیٹھ کر جنگلی بھیڑوں کا شکار کیا جائے۔ ارضٌ ناعِجة: نرم زمین، نِعاجُ الرمل: گائے۔

نعر: ا۔ نَعَرَ ـِ نَعِيرًا و نُعارًا الرجلُ: خراٹے لینا۔ — العِرقُ بالدم: رگ سے خون پھوٹ نکلنا، کہا جاتا ہے: نَعَرَ فلانٌ في قفا الإفلاس: وہ امیر ہو گیا، الناعِر فا: کہا جاتا ہے: كلّما نَعَرَ بهم ناعِرٌ اتبعوه: جب بھی کسی نے انہیں چیخ چیخ کر فساد کی طرف دوڑنے کیلئے پکارا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ الناعُور: رگ یا زخم جس سے خون پھوٹ کر نکل رہا ہو۔ چکی کا پاٹ۔ — و الناعُورة جمع نَواعِير: رہٹ۔ — النُّعَرة جمع نُعَرات: نعر کا اسم مرة۔ نتھنوں

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سے آواز نکالتا نعرةُ النجم: ہوا کا جھونکا اور گرمی کی شدت جو طلوع ثریا کے وقت ہوتی ہے۔ النُّعَرَة والنُّعَرة جمع نُعَر و نُعَرات: ناک، نتھرا۔ النَّعَّارِم نَعَّارَة: چیخنے والا، شور مچانے والا۔ (ح) ایک قسم کا پرندہ، رگ یا زخم جس سے خون پھوٹ نکلے۔ النَّعَّارَة: دستے والا مٹی کا لوٹا۔ امرأة نَعَّارَة: شور مچانے والی بدزبان عورت۔ النَّعُور: رگ یا زخم جس سے خون پھٹ کر نکل رہا ہو۔ النَّعِير (مص) لڑائی وغیرہ کی چیخ و پکار۔

۲۔ نَعَرَ ۔ نَعْرًا فی البلاد: ملک میں جانا۔ ۔ القومُ: جوش میں آنا، جمع ہونا۔ ۔ الی فلان: کے پاس آنا، کہا جاتا ہے: من اینَ نعرتَ الینا؟: تم کہاں سے ہمارے پاس آئے؟ ۔ فی الامر: کسی کام کیلئے اٹھنا، کوشش کرنا۔ ۔ الرجُلُ: مخالفت کرنا، انکار کرنا۔ نَعِرَ ۔ نَعَرًا الحمارُ او الفرسُ: گدھے یا گھوڑے کی ناک میں مکھی گھس جانا اور اس کا بےچین ہونا۔ صفت نَعِر، نَعَّرَ السہمَ: تیر کی سیدھ دیکھنے کے لئے اسے ناخن پر گھمانا۔ أَنْعَرَ الاراكُ: درخت پیلو کا پھلدار ہونا۔ النَّعِرم نَعِرَة: ایک جگہ نہ ٹھہرنے والا۔ ۔ النَّعَرة: تکبر، غرور، مہتم بالشان کام۔ النُّعَرة: مندرجہ بالا معنی۔ ۔ جمع نُعَر و نُعَرات: ہوا جو ناک میں داخل ہو کر اسے ہلائے۔ (ح) ایک قسم کی بڑی مکھی نیلے رنگ کی جو جانوروں پر گر کر انہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور گھوڑوں اور گدھوں کی ناکوں میں گھس کر ایذا دیتی ہے۔ پیلو کے درخت کا پھل، النَّعَّارم نَعَّارَة: باغی، فتنہ انگیز۔ النَّعُور من الریاح: ہوا جو گرمی میں اچانک سردی اور سردی میں گرمی لے آئے۔ نِیَّةٌ نَعُورٌ: دور کی نیت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ نَعِیرُ الهمِّ: فلاں شخص جو پیش از وقت منصوبے باندھنے والا ہے۔

○ نَعَرَ ـــ نَعِیرًا و نُعارًا: غرانا، چیخنا، چلانا، دھاڑنا، چنگھاڑنا، گرجنا، ڈکرانا، جاں فشانی سے کام کرنا (زخم سے) خون پھوٹ نکلنا۔ نَعْرَة: شور، شور و غل، شور و غوغا، گرج، دھاڑ۔ نُعْرة: ناک۔ نُعَرَة: جمع نُعَرات و نُعَر: گھوڑوں کو تنگ کرنے والی مکھی، بڑمکھی، گٹھو مکھی۔ نَعَرَة و نُعَرَة جمع نعرات: غرور، کبر، نخوت، اکڑ، اکڑفوں، ہیکڑی، خود پسندی، فخر و مباہات، فخر و ناز۔ نعرة إقلیمیة: جنگجویانہ وطن پرستی، نَعَّار: شور مچانے والا، گڑبڑ والا، گلا پھاڑ پھاڑ کر کہنے والا، تحریک میں حصہ لینے والا، بھیڑ کو برانگیختہ کرنے والا۔ نَعِیر: شور، شور و غل، شور و غوغا، چلانا، ڈکارنے والا، گائے کی آواز نکالنے والا، ڈکرانے والا، نَعَّارہ: مٹی کا لوٹا،

برتن۔ ناعُور: رگ یا زخم سے خون کا پھوٹ نکلنا۔

نعس: نَعَسَ ـ نَعْسًا الرجُلُ: اونگھنا صفت نَاعِس جمع نُعَّس م نَاعِسَة جمع ناعِسات و نَوَاعِس۔ ۔ جسمُهُ او رایُهُ: جسم یا رائے کا کمزور ہونا۔ ۔ ت السوقُ: بازار کا ٹھنڈا یا ماند پڑنا، کساد بازاری ہونا۔ أَنْعَسَ هُ: کو سلانا۔ ۔ فلانٌ: ست بیٹوں والا ہونا۔ تَنَاعَسَ: سونے یا اونگھنے کا بہانہ کرنا۔ ۔ البرقُ: بجلی کا ست ہونا۔ ۔ السوقُ: بازار کا ٹھنڈا یا ماند پڑنا۔ النُّعاس: اونگھ، حواس کی سستی۔ پہلی نیند۔ النَّعْسان م نَعْسَی: اونگھنے والا امرأةٌ نَعْسَة و نَعُوسٌ: اونگھنے والی عورت۔۔

نعش: نَعَشَ ـ نَعْشًاہُ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا بلند کرنا، اٹھانا، ہلاکت سے بچانا، فقیری کے بعد دولت مندی نصیب کرنا۔ ۔ الربیعُ الناسَ: فصل ربیع کا لوگوں کو خوشحال کرنا، زندہ کرنا۔ المیتَ: میت کا ذکر جمیل کرنا۔ طَرْفَہُ: کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ ۔ الشجرةَ: جھکے ہوئے درخت کو سیدھا کرنا۔ نُعِشَ: تابوت پر اٹھایا جانا صفت منعوش۔ ۔ فلانٌ: پھسلنے کے بعد اٹھایا جانا۔ نَعَّشَ هُ اللّٰهُ: کو اللہ کا بلند کرنا، اٹھانا۔ ۔ فلانٌ فلانًا: کو نَعَشَكَ اللّٰه من عثرتك کہنا۔ یعنی اللہ تجھے پھسلنے کے بعد اٹھائے أَنْعَشَ هُ اللّٰهُ: کو اللہ کا بلند کرنا، اٹھانا۔ اِنْتَعَشَ: سستی کے بعد چست ہونا، سر اٹھانا۔ ـــ من سقطته: گرنے کے بعد اٹھنا۔ اِسْتَنْعَشَ: سستی کے بعد چست ہونا۔ النَّعْش (مص): بقا، وہ چارپائی جس پر بادشاہ کو بیمار ہونے کے بعد اٹھاتے تھے، تابوت۔ بناتُ نَعْشٍ الکبرٰی (فلك): قطب شمالی کے رخ دیکھے جانے والے سات ستارے، ان کے قریب سات اور ستارے ہیں جنہیں بنات النعش الصغری کہا جاتا ہے۔ جو ستارا بڑا دکھایا جاتا ہے قطبی ستارہ ہے جس سے قطب شمالی کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔

○ نَعَشَ ـــ نَعْشًا و نَعَّشَ و أَنْعَشَ: اٹھانا، ہوش میں لانا، تازہ کرنا، پھر سے پیدا کرنا ـــ ہ: (کی یاد) تازہ کرنا، میں جان ڈال دینا، کو تقویت پہنچانا، کی ہمت بندھانا، کو جوش دلانا، کو جگانا، اٹھانا، ابھارنا، ہوشیار کرنا، میں تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا۔ اِنْتَعَشَ: گرنے سے اٹھنا، صحت یاب ہونا، تازہ دم ہونا، تقویت پانا، نئی زندگی پانا۔ نَعْش: تابوت، بنات نعش الصغری: دب اصغر۔ بنات نعش الکبری: دب اکبر۔ نَعْشَةُ الموت: موت کی گھڑی، نزع کا آخری [illegible]۔ انتعاش الاقتصادی

اقتصادی قیمت میں اضافہ کرنا، انتعاش: پھر شاداب ہو کر پھوٹنا، حیات نو، جان ڈالنا، جذبہ، جوش، تقویت پہنچانا، ہیجان، تحریک، تر و تازگی، آسودگی، تفریح۔ مُنْعِش: حرکت پیدا کرنے والا، جان ڈالنے والا، زندہ کرنے والا، تازہ دم کرنے والا، شاداب کرنے والا، تقویت پہنچانے والا۔ شفا بخش، قوت بخش، مقوی (دوا)۔

نعص: نَعَصَ ـــ نَعْصًا الشیءَ: کو حرکت دینا، ـــ الجرادُ الارضَ: ٹڈیوں کا نباتات کھا جانا۔ نَعِصَ ـ نَعَصًا: جھکنا۔ اِنْتَعَصَ: حرکت کرنا، ـ الرجُلُ: گرنے کے بعد اٹھنا، غضبناک ہونا۔ النَّاعِصَة: معاونین و مددگار۔

نعط: أَنْعَطَ الآکِلُ: کھانے والے کا آدھا لقمہ کھانا اور آدھا ڈال دینا۔ النُّعُط واحد نَاعِط: کھانے اور دادو دہش میں بدتمیز لوگ۔

○ نَعَظَ ـ نَعْظًا و نَعَظًا و نُعُوظًا: (آلہ تناسل کا) سیدھا کھڑا ہونا۔ أَنْعَظَ: جنسی طور پر مشتعل ہونا۔ نَاعُوظ: جنسی خواہش برانگیختہ کرنے والا، جنسی طور پر ہیجان پیدا کرنے والا، جنسی محرک، نشاط انگیز، شہوت انگیز۔

نعف: نَاعَفَ مُنَاعَفَةً هُ: دو راستوں میں چل کر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرنا۔ ـ هُ الطریقَ: کا راستہ روکنا، کو سے باز رکھنا۔ أَنْعَفَ: بلند جگہ بیٹھنا۔ اِنْتَعَفَ: بلند جگہ پر چڑھنا۔ ـــ الشیءَ: کو دوسرے کے لئے چھوڑ دینا۔ ـ لفلان: کے درپے ہونا۔ ـــ الراکِبُ: سوار کا ظاہر ہونا۔ النَّعْف جمع نِعاف: وادی سے بلند اور پہاڑ سے پست ہموار جگہ۔ ـ من الرملة: ریت کا اگلا یا پتلا حصہ۔ النُّعْفَة: پاؤں کی پشت پر جوتے کا تسمہ۔ النَّعَفَة: گیسو، شملہ، گوشت میں خراب گرہ، کجاوے کے تسمے۔ اُذُنٌ نَاعِفَةٌ و نَعُوفٌ: ڈھیلا کان۔ المُنْتَعَف: سخت اور نرم زمین کے درمیان کی حد۔ اذنٌ مُنْتَعِفَة: ڈھیلا کان۔ المَنَاعِف من الجبال: پہاڑوں کی چوٹیاں

نعق: نَعَقَ ـ نَعْقًا و نَعِیقًا و نُعاقًا و نَعَقانًا الغرابُ: کوے کا کائیں کائیں کرنا۔ ـ المؤذِّن: موذن کا بلند آواز سے اذان دینا۔ ـ الراعی بغنمه: چرواہے کا اپنی بکریوں کو ڈانٹنا اور للکارنا۔ النَّعَّاق: بہت کائیں کائیں کرنے والا، النَّاعِقَان (فلك): جوزا کے دو ستارے۔

○ نَعَقَ ـــ نَعْقًا و نَعِیقًا: کوے کا کائیں کائیں کرنا۔ (بھیڑ کا) بھیں بھیں یا میں میں کرنا ـــ: چیخنا، چلانا، خوف یا غصے سے چلا اٹھنا۔ کلُّ ناعِقٍ و ناعِرٍ: ہر

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زندہ اور چلنے پھرنے والا، ہر شخص اور اس کا بھائی، ہر ایک ہمہ شما، ایرے غیرے نتھو خیرا۔

نعل: نَعَلَ ـ نَعْلاً القومَ: لوگوں کو جوتے عطا کرنا۔ ــ الدابّةَ: جانور کے نعل لگانا۔ نَعِلَ ــ نَعَلاً: جوتے پہننا۔ نَعَّلَ و انْعَلَ الدابّةَ: جانور کو نعل لگانا۔ تَنَعَّلَ و انْتَعَلَ: جوتے پہننا۔ ــ الثوب: کپڑا روندنا۔ کہا جاتا ہے: اِنْتَعَلَ الارضَ: ننگے پاؤں سفر کرنا۔ النّاعِل (فا): بہت جوتوں والا، گورخر۔ رجُلٌ ناعِل: جوتے والا۔ حافِرٌ ناعِلٌ: سخت کھر۔ النَّعْل (مص) جمع نِعَال و انْعُل: جوتا، پیر کا تلوا۔ مونث اس کی تصغیر نُعَيْلَة ہے۔ نَعْلُ الدابّةِ: جانور کا نعل۔ جمع نِعال: تلوار کے میان کا لوہے یا چاندی کا سرا، سخت و بنجر زمین، کہا جاتا ہے۔ اخضرَّت نِعالُ القومِ: قوم کی زمین سرسبز ہوگئی۔ النَّعْلَة: ہر وہ چیز جس سے قدم کو زمین سے بچایا جائے۔ جیسے جوتا۔ النَّعّال: نعل بند۔ المَنْعَل و المَنْعَلَة: سخت زمین۔ مکانٌ مُنْعَلٌ و ارضٌ مَنْعَلَة: سخت جگہ، سخت زمین۔ المُنْعَل: جوتے والا۔ فرسٌ مُنْعَلٌ: سخت نعل والا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے رماہُ بالمُنْعِلات: اس نے اس پر مصیبتیں ڈالیں۔

○ نَعْل جمع نِعال و انْعُل: سینڈل، جوتا، نعل۔ ناعِل: بوٹ والا، جوتے میں تلے لگا ہوا۔

نعم ا۔ نَعَمَ ـ نُعْمَةً و مَنْعَمًا الرجلُ: خوشحال ہونا۔ ــ عيشُهُ: کی زندگی کا اچھا، عمدہ اور فراخ ہونا، کہا جاتا ہے: هذا منزلٌ ينعمهم: یہ مکان ان کے موافق ہے اور خوشگوار ہے۔ نَعِمَ ــ نَعْمَةً و مَنْعَمًا الرجلُ: خوش حال ہونا۔ ــ عيشُهُ: کی زندگی کا اچھا عمدہ اور فراخ ہونا کہا جاتا ہے: نَعِمْتُ بهذا عيناً: میں اس سے خوش ہوا۔ نَعِمَكَ اللّٰهُ عَيْنًا و نَعِمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا: خدا تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرے اور تمہارے محبوب کو تم سے خوش کرے۔ عینا کا نصب تمیز کے طور پر ہے۔ نَعِمًا العودُ: لکڑی کا سرسبز و تر و تازہ ہونا۔ نَعُمَ ـــ نُعُومَةً: نرم و ملائم ہونا۔ صفت ناعِم۔ نِعْمَ: غیر متصرف فعل۔ نِعْمَ الرجلُ زيدٌ و نِعْمَ رجلاً زيدٌ: زید اچھا آدمی ہے۔ تثنی اور جمع کا استعمال نادر ہے کہا جاتا ہے۔ نِعْمَا و نِعْمُوا و نِعْمَتَا و نِعْمْنَ: کبھی اس پر ما داخل ہوتا ہے، تو صلہ سے قناعت کی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں۔ دققتهُ دقًّا نِعِمَّا: تم نے جو احتیاط سے کیا تو اچھا کیا۔ إنْ فعلتَ فبها و نِعْمَتْ: اگر تم نے کیا تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ نَعَّمَ الشيَ: کو نرم و ملائم بنانا۔ ــ الرجلُ کو خوش حال کرنا۔ کو نَعَم (ہاں) کہنا۔ ــ القومَ: لوگوں کے پاس ننگے پاؤں آنا۔ ناعَمَ مُناعَمَةً الرجلُ: آسودہ حال ہونا۔ الرجلَ: کو آسودہ حال بنانا۔ ــ الحبلَ وغیرہ: رسی وغیرہ کو مضبوط کرنا۔ انْعَمَ الشيَ: کو نرم و ملائم کرنا۔ ــ فلاناً: کو آسودہ حال کرنا یا بنانا۔ انْعَمَ اللّٰهُ صباحَكَ: خدا تمہاری صبح اچھی کرے، صبح بخیر، امر کے طور پر کہا جاتا ہے۔ انْعِمْ صَباحًا اکثر کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ اور نون محذوف ہوتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے: عِمْ صَبَاحًا او عِمْ مساءً: (خدا تمہاری صبح یا شام اچھی کرے)۔ ــ اللّٰهُ النعمةَ عليه و انْعَمَهُ بالنعمة: کو اللہ کا نعمت سے نوازنا۔ ــ اللّٰهُ بكَ عيناً: اللہ تمہاری وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے جس کو تم محبوب رکھتے ہو یا تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی کرے جس کو تم محبوب رکھتے ہو۔ ــ الرجلُ: زیادہ کرنا، نعمت کو پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: هذا منزلٌ يُنْعِمُ: یہ گھر بہت خیر والا اور موافق ہے۔ ــ لهُ: کو نعم (ہاں) کہنا۔ ــ القومَ: لوگوں کے پاس ننگے پاؤں آنا۔ ــــ صديقَهُ: دوست کو ننگے پاؤں رخصت کرنا۔ ــ في الامر: کام میں مبالغہ کرنا، اچھی طرح کرنا۔ ــ النظرَ في المسألة: مسئلہ پر غور کرنا۔ تَنَعَّمَ الرجلُ: آسودہ زندگی گزارنا، ننگے پاؤں چلنا۔ ــ قَدَمَيْهِ: کو مشغول کرنا۔ ــ الدابّةَ: جانور کو خوب اچھی طرح ہانکنا۔ ــ فلاناً بالمكان: کو میں ڈھونڈنا۔ کہا جاتا ہے: اتيتُ ارضَهم فتَنَعَّمَتْنِي: میں ان کی زمین پر آیا تو وہ میرے موافق اور خوشگوار ہوئی۔ تَناعَمَ: خوش حال ہونا۔ الناعِم (فا) اچھی طرح پیسا ہوا۔ بُنٌّ ناعِمٌ و تراب ناعم: نرم قہوہ، مٹی۔ ــ من الثياب: ملائم کپڑا۔ ــــ من العيش: آسودہ زندگی۔ ـــــ من النبات: سیدھا ہموار پودہ۔ الناعِمة ناعم کا مونث۔ آسودہ زندگی والی، باغ ــ ن: ساج، خوشبودار سبزی۔ النُّعْمُ جمع انْعُم: خوشحال، کہا جاتا ہے: هذا يومُ نُعْمٍ: یہ خوشگوار دن ہے۔ سافعله نُعْمَ و نُعْمَ عينٍ: میں اسے آپ کی تکریم کیلئے کروں گا۔ النَّعَمُ جمع انْعام و جمع اناعِيم: اونٹ، گائیں، بکریاں۔ النِّعْمَة: اسم مرة۔ تمتع و تنعم، آسودگی، لطف اندوزی۔ نِعْمَةُ العيشِ: آسودگی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، کہا جاتا ہے: سافعله نَعْمَةَ عينٍ: میں اسے آپ کی خوشی کیلئے کروں گا۔ النِّعْمَةُ جمع نِعَم و انْعُم و نِعْمَات و نعيمات: فائدہ، فضل و کرم، انعام، مسرت، حالت جس سے انسان لطف اندوز ہو۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ واسع النعمة: فلاں شخص بہت مالدار ہے۔ النُّعْمَة: خوشی۔ نُعْمَةُ العين: آنکھ کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے سافعله نعمةَ عينٍ: میں اسے تمہارے اکرام کے لئے کروں گا۔ النَّعام: شتر مرغ، بیابان۔ ــ الصّادِر (فلك): چار ستارے۔ ــ الوارد: دوسرے چار ستارے۔ جو چاندی کی ایک منزل ہیں۔ کہا جاتا ہے: سافعله نَعامَ و نُعامَ و نِعامَ عينٍ: میں اسے تمہارے اکرام کیلئے کروں گا۔ النَّعامة: اکرام، خوشی، قدم یا قدم کا تلوا، نفس، تاریکی، جہالت، واضح راستہ، بیابان میں بلند کیا ہوا جھنڈا (رہنمائی کیلئے) پہاڑ پر سائبان نما عمارت، دماغ کی جھلی، لوگوں کی جماعت۔ ــــ جمع نَعام و نَعامات و نعائِم (ح): شتر مرغ (مذکر و مونث)، مذکر کو ظلیم اور شتر مرغ کے گلہ کو بنات الهَيْق کہا جاتا ہے، بیوقوفی اور بھاگنے میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ ابنُ النَّعامة: پنڈلی کی ہڈی، کہا جاتا ہے۔ نَفَرَتْ نَعامَتُهُ: وہ مر گیا یا کوچ کر گیا۔ جاءَ كالنعامة: وہ محروم لوٹا۔ رَكِبَ جناحَي النعامة: اس نے اپنے کام میں کوشش کی۔ شالَتْ نعامَتُهُ: وہ مر گیا۔ شالت نعامةُ القومِ: لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ انه لخفيفُ النَّعامة: وہ ضعیف العقل ہے۔ اصمُّ من نعامة: شتر مرغ سے زیادہ بہرہ۔ النُّعْمَى جمع انْعُم: بابرکت ہاتھ۔ النُّعْمان: حیرہ کے بادشاہ کا لقب، خون۔ شقائِقُ النُّعمان واحد شقيقةُ النعمان (ن) گل لالہ۔ النُّعْمَى: بابرکت ہاتھ، نرم دلی، حلم، آسودہ زندگی، مال، کہا جاتا ہے: سافعله نُعْمَى عينٍ: میں اسے تمہاری خاطر کروں گا۔ النُّعامَى جمع نَعائِم: جنوبی ہوا، کہا جاتا ہے۔ نُعاماكَ أن تفعل كذا: آخر کار تم یہ کرو گے۔ سافعله نُعامَى عينٍ: میں اسے تمہاری خاطر کروں گا۔ النَّعائِم (فلك): چاند کی ایک منزل جو آٹھ ستاروں سے مرکب ہے اس کی اور شتر مرغ کی ایک سی شکل دکھائی دیتی ہے۔ الإنعام: انْعَمَ کا مصدر جمع إنعامات: انعام۔ الإنْعامة: انعام، عطیہ۔ النُّعُومة (مص) ملائمت۔ النَّعِيم: آسودہ حالی، آرام، مال۔ رجُلٌ نعيمُ البال: پرسکون شخص۔ سافعله نعيمَ عينٍ: میں اسے تمہاری خاطر کروں گا۔ نعيمُ اللّٰهِ: اللہ کا فضل۔ المِنعام: بڑا فیاض۔ المِنْعَم: جھاڑو۔ المُناعِم و المُتَناعِم من النبات: سیدھا ہموار پودہ۔ المُناعَم و المُتَناعِم و المُتَنَعِّم: خوش حال، مال دار۔ المُنَعَّم: خوش حال، مالدار۔ كلامٌ مُنَعَّمٌ: نرم گفتگو۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ نَعَمْ نیز نَعِم و نِعِم ونَعَام ونَعَمْ بھی کہا جاتا ہے، حرف جواب ہے۔اس کے چار معنی ہیں:۔
ا۔خبر کے بعد حرف تصدیق ہوتا ہے،مثلاً قام زیدٌ کے جواب میں نعم قام کا معنی دیتا ہے۔(زید کھڑا ہواہاں (زید کھڑا ہوا)۔
۲۔امر ونہی کے بعد اگر واقع ہو تو حرف وعدہ ہوتا ہے، جیسے: اضرب زیدًا (زید کو مار) اس کے جواب میں نعم کا معنی ہوگا: میں تم سے زید کو مارنے کا وعدہ کرتا ہوں۔
۳۔استفہام کے بعد تو حرف اعلام ہوتا ہے۔جیسے أقام زیدٌ؟ کیا زید کھڑا ہوا؟اس کے جواب میں نعم کا معنی ہوتا ہے میں تمہیں اس کے کھڑے ہونے کی اطلاع دیتا ہوں۔
۴۔اگر صدر کلام میں آئے تو تاکید کے لئے ہوتا ہے جیسے نعم ان ربی قادرہاں میرا پروردگار ایسا کرسکتا ہے النعَامة:تاریکی،کنویں میں اٹھا ہوا پتھر۔
○ أنْعَم اللّٰهُ صَباحَكَ:صبح بخیر،گڈ مارننگ (Good Morning)۔ انعم النظر فی کوغور سے دیکھنا، کی جانچ پڑتال کرنا،کو توجہ سے دیکھنا، کے مطالعہ میں منہمک ہونا، پرغور کرنا۔ نِعمَ الرجلُ زیدٌ:زید کتنا عمدہ مرد ہے۔ نِعمَ الشبابُ شبُابهم!ان کے پاس کتنے حیرت انگیز جوان ہیں! انه نعم الخلیل: بلاشبہ وہ ایک حیرت انگیز دوست ہے۔ فَبِهَاونِعمَتْ:اس صورت میں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ نعم مافعلت:شاباش! نَعَمْ:ہاں،ہاں بے شک، یقینا،واقعی سچ، پھر سے کہئے،معاف کیجئے میں نے سنا نہیں۔ بِنِعْمَةِ اللّٰه:اللہ تعالیٰ کے لطف وکرم سے واسِع النعمة:بہت خوشحال،دولتمند،امیر، وَلِيُّ نِعْمَتِهِ (نِعَمِه):اس کا محسن۔ نُعْمَى:خوشی،سرور۔ نَعْمَاء:مہربانی،خیراندیشی،خیرخواہی،خیرسگالی،لطف وکرم، فی النعماء و الباساء:اچھے اور برے دنوں میں۔ نُعمان:خون، شقائق النعمان:ایک قسم کے پودے۔ نَعَام(اسم جنس واحد نعامة) جمع نَعَائِم: شترمرغ،سنگ خور۔ نعیمُ اللّٰه:اللہ کا لطف وکرم، فضل بخشش،رحمت،نعمت،برکت، مِن (منذ) نعومة أظفَارِه:بچپن سے۔ :أنْعَم:زرتر،ملائم تر۔ مِنعام:فیاض محسن۔ مناعِم:مہربانیاں،برکتیں، نعمتیں، عطایا،خوشگواریاں،سہولتیں، آرام پہنچانے والی چیزیں،خوشیاں۔ تنعیم:زیادہ لاڈ پیار کرنا،غیر معمولی خاطر مدارات کرنا، ناز برداری، کمزور بنانا، نامرد بنانا،بزدل بنانا۔ ناعِمُ الظُفُر:نوجوان، نازک،نوعمر، سُكَّر ناعِم:کھانڈ (Powdered Sugar) مُنْعِم:عطا کرنے والا،محسن۔

نعو: نَعَا يَنْعُو نُعَاءً السنَّورُ:بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ النَّعو:ناک کے نیچے کا دائرہ،اونٹ کے اوپر کے ہونٹ کا شگاف،گھوڑے کے سم کے موخر حصہ کی دراڑ، تازہ کھجوریں۔

نعی: نَعَى يَنْعَى نَعْيًا ونَعِيًّا ونُعْيَانًا لنا و الینا فلانًا: اس نے ہمیں فلاں شخص کی موت کی اطلاع دی کہا جاتا ہے: نعاهُ بموتِ فلان:اس نے اسے فلاں شخص کی موت کی اطلاع دی۔ ــ القوم:لوگوں کو اپنی میت کی تدفین کے لئے بلانا۔ نَعيتُهُ الشيَّ:میں نے اسے اس چیز کی اطلاع دی۔ ــ علی القوم شهواتهم: کی عیب گیری کرنا،کہا جاتا ہے: هو ينعَى علی فلان ذُنوبَه:وہ اس کے گناہوں اور عیبوں کو ظاہر کرتا ہے اور انہیں شہرت دیتا ہے۔ فلانٌ يعني فلانًا:کسی کا کسی سے قصاص طلب کرنا۔ فلان ينعَى علی نفسهِ بالفواحِش: کسی کا اپنے جرائم کی تشہیر کرنا۔ أنعَى عليه شيئًا قَبيحًا: کو اس کی بری بات پر طعنہ دینا۔ أنعَيْتُهُ الشيَّ:میں نے اس کو اس کی خبر دی۔ تَنَاعَى القومُ:طلب قصاص پر اکسانے کے لئے مقتولین کے قتل کی اطلاع دینا۔ إسْتَنْعَى القومُ: طلب قصاص پر اکسانے کیلئے مقتولین کے قتل کی اطلاع دینا۔متفرق ہونا منتشر ہونا، ــ ذِكرُ فلان:کا ذکر مشہور ہوجانا۔ ــ الشرُّ بفلان:کے ذریعے برائی کا لگاتار واقع ہونا۔ الراعی الغنمَ:چرواہے کا آگے ہوکر بکریوں کو اپنے پیچھے بلانا۔ ــ حُبُّ الخمر به: میں شراب کی محبت کا دیر تک رہنا۔ الناعی (فا) جمع نَاعُون ونُعَاة ونُعْيان:موت کی خبر لانے والا۔طعن و تشنیع کرنے والا۔ نَعَاءِ:موت کی خبر دے۔ نعاءِ فلانًا:فلاں کی موت کی خبر ظاہر کر اور پہنچا۔ النَّعْيَة جمع نَعَيَات:نَعَى کا اسم مرہ،موت کی خبر،اسے عام لوگ نَعْوَة: کہتے ہیں۔ النعِيّ (مص):موت کی خبر دینے والا،جس کی موت کی خبر دی جائے۔ المَنْعَى و المَنْعَاة جمع مَنَاعٍ:موت کی خبر۔
○ نَعَى ــ نَعْيًا ونَعِيًا و نَعيانًا ہ الی: کو کی موت کی اطلاع دینا، کیلئے کی موت کا اعلان کرنا۔ ــ ہ علی: کے خلاف ثبوت رکھنا۔ ــ علی ہ کو پر ملامت کرنا،کو کا قصوروار ٹھہرانا۔ نَعَى ــ:ماتم کرنا،گریہ و زاری کرنا۔ ــ ہ کا غم کرنا۔ نعی:کسی کی موت کا اعلان کرنے والا،الزام،ملامت۔ نَعْيَة جمع نَعْيَات: کسی کی موت کی خبر۔ مَنْعى و مَنْعَاة جمع مَنَاعٍ:کسی کی موت کی خبر۔

نغب: نَغَبَ ــ نَغْبًا الريقَ:تھوک نگلنا، ــ الرجُلُ فی الشرب:گھونٹ گھونٹ پینا۔ ــ الطائِرُ:پرندے کا پانی پینا۔ النَغْبَة جمع نُغَب:گھونٹ۔ النُغْبَة:برا کام۔ جمع نُغَب:گھونٹ۔
○ نَغْبشة:شوروغل۔

نغت: نَغَتَ ــ نَغْتًا الشعَرَ:بال کھینچنا۔

نغث: النَغَث:دائمی سخت مصیبت۔

نغر:ا۔ نَغَرَ ــ نَغيرًا و نَغَرانًاتِ القِدرُ:ہانڈی کا ابلنا۔ ــ نَغرًا و نَغَرانًا الرجُلُ علی فلان:پرغضبناک ہونا،صفت نَغِر(مذکر) نَغِرة(مونث) ــ الناقةَ: اونٹنی کو آواز دینا، بلانا۔
نَغِرَ ــ نَغيرًا و نَغَرانًاتِ القِدر:ہانڈی کا ابلنا۔ نَغَرًا و نَغَرانًا الرجُلُ علی فلان:پرغضبناک ہونا۔ الناقةَ:اونٹنی کو آواز دینا، بلانا۔ ــ نَغَرًا الرجُلُ:کینہ رکھنا۔ نَغَّرَ بالناقةِ:اونٹنی کو آواز دینا،بلانا۔ ــ الصبيَّ:بچہ کو گدگدانا۔ تَنَغَّر الرجُلُ:غضبناک ہونا۔ ــ علی فلان:پر دگرگوں ہونا،غضبناک ہونا، تَنَاغَرَ الرجُلُ:بھیس بدلنا۔ النَغَر (مص): کھارے پانی کا چشمہ۔ النُغَر جمع نِغْران (ح): بلبل،چڑیوں کے بچے النَغّار:تیز مزاج،چڑچڑا، جرحٌ نَغّار:بہت خون بہانے والا زخم۔
۲۔ نَغِرَ ــ نَغَرًا مِن الماء:بہت پانی پینا۔
۳۔ انْغَرَتِ البيضةُ:انڈے کا گندہ ہونا۔

نغز: نَغَزَ ــ نَغْزًا الصبيَّ:بچہ کو گدگدانا۔ ــ بین القوم: قوم میں فساد ڈالنا،بعض کو بعض کے خلاف اکسانا۔ النَغّاز:فتنہ انگیز۔
○ نَغَزَ ــ نَغْزًا ہ: کو گدگدانا،گدگدی کرنا،کو سوئی وغیرہ چبھونا۔ ــ بین:کے درمیان نااتفاقی کا بیج بونا، کے درمیان دشمنی بھڑکانا۔

نغش:ا۔ نَغَشَ ــ نَغْشًا ونَغَشانًا:بے قرار ہونا، ہلنا،کہا جاتا ہے: هو ینغش إلی فلان:وہ فلاں کی طرف مائل ہے۔ سُقِي فلان فنَغَشَ:بے ہوشی کے بعد ہلنا،حرکت کرنا۔ نَاغَشَ مُنَاغَشَةً ہُ:سے بات چیت کرنا(عام زبان میں)۔ تَنَغَّشَ وانْتَغَشَ الشيُّ: حرکت میں آنا بے قرار ہونا،کہا جاتا ہے: تَنَغَّشَ وانْتَغَشَ المكانُ باهله و الراسُ بالقمل:جگہ کا لوگوں سے اور سر کا جوؤں سے بھر جانا۔ النَغْشَة: حرکت،اضطراب۔
۲۔ النُغَاش:رذیل،غنڈے۔ ــ و النَغّاش و النُغَاشِيّ: بہت چھوٹے قد والا،بہت پست قد ٹھگنا۔
○ نَاغَشَ ہُ:کے ساتھ کھیلنا،کو چھیڑنا،کو دق کرنا،تنگ کرنا،

9marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کواٹھلانا، سے جھوٹی محبت جتانا۔ نُغاش ونُغاشی
بہت چھوٹا، بونا، بالشتیا، ٹھگنا، ناٹا، پستہ قد۔ نغاشة
ٹھٹھا کرنا، چھیڑ خانی کرنا، دل لگی کرنا، ٹھٹھا، مذاق،
فقرہ بازی، تنگ کرنا، دق کرنا، خوش مزاجی، زندہ دلی،
خوش وضعی۔

نغص: نَغِصَ۔ نَغَصًا ہُ: کو پانی کے حصہ سے روک دینا یا اس کے پینے میں حائل ہونا۔ لَغِصَ ــــ نَغَصًا البعیرُ: اونٹ کا سیراب نہ ہونا۔ ـــ الرجُلُ: کی مراد پوری نہ ہونا۔ نَغَصَ اللّٰهُ علیه العیشَ و نغص عیشَه: اللہ تعالیٰ کا کسی کی زندگی کو بدمزہ کر دینا۔ ـــ فلانًا: کی زندگی مکدر کر دینا۔ نَغَّصَ تنغیصًا: کو پوری خوشگواری نصیب نہ ہونا۔ أنغَصَ اللّٰهُ علیه نعشه: اللہ تعالیٰ کا کسی کی زندگی کو بدمزہ کر دینا۔ ـــ فلانًا عیشَهُ: کے اونٹوں کو چرنے نہ دینا۔ تنغّصَ العیشُ: زندگی کا مکدر اور بدمزہ ہونا۔ تناغصَتِ الابلُ: اونٹوں کا بھیڑ کرنا۔ النُّغصة جمع نُغَص: وہ چیز جو مراد حاصل کرنے سے روک دے۔

○ نغَصَ وانغَصَ علی ہ: کی خوشیوں یا زندگی وغیرہ کو درہم برہم کرنا، ابتر کرنا، خراب کرنا، پریشان کرنا، ناگوار بنانا۔ تنغّصَ: پریشان ہونا، ابتر ہونا، خراب ہونا، ناگوار ہونا۔ مُنغِّص: ہیجان پیدا کرنے والا، بھڑکانے والا۔ ابھارنے یا اکسانے والا۔

نغض: نغض ـُ نَغْضًا و نغوضًا و نغضانًا: ہلنا، بے قرار ہونا، کانپنا۔ ـ القومُ الی العدو: لوگوں کا دشمن کے مقابلہ کیلئے اٹھنا۔ ــ الشیءَ وبالشیءِ: کو حرکت دینا۔ ـــ نغضا الشیءُ: زیادہ ہونا، بکثرت ہونا۔ ـــ السحابُ: بادل کا گہرا چھا جانا۔ نَغَّضَ الشیءَ: کو حرکت دینا، انغضَ الشیءَ: ہلنا، بے قرار ہونا۔ ـــ رأسَهُ: کو تعجب یا مسخری سے ہلانا۔ تنغَّضَ الشیءُ: ہلنا، بے قرار ہونا۔ الناغِض (فا) جمع نَغْض من الانسان: گردن کی جڑ۔ ــ من الکتِف: مونڈھے کے کنارے کی پتلی ہڈی۔ غیمٌ ناغِضٌ: ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے بادل۔ النَّغْض (مص): چلنے میں سر ہلانے والا یا کانپنے والا۔ النُّغضُ من الکتفِ: مونڈھے کے کنارے کی پتلی ہڈی۔ النغّاض من السحاب: ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے بادل۔ رجلٌ نغّاضُ البطن: موٹے پیٹ والا کہ موٹاپے کی وجہ سے پیٹ پر بٹین پڑی ہوں۔ النغوض: بڑبڑے کوہان کی اونٹنی۔

نغف: نَغِفَ۔ نَغَفًا البعیرُ: اونٹ کی ناک میں کیڑے ہونا۔ النَّغَف (ح): اونٹوں اور بکریوں کی ناکوں میں پایا جانے والا کیڑا۔ (واحد نَغَفَةٌ) خشک رینٹ۔

نغق: نَغَقَ ـِ نُغاقًا و نغیقًا الغرابُ: کوے کا کائیں کائیں کرنا۔ النَّغّاق: بہت کائیں کائیں کرنے والا۔

نغل: نَغِلَ ـ نَغَلًا الجلدُ: کھال کا دباغت میں خراب ہو جانا، ـــ الجرحُ: زخم کا بگڑ جانا، زخم میں خرابی رہ جانا۔ ـ نیّتُهُ: نیت بگڑ جانا۔ ـ قلبُهُ علی: مجھ سے کینہ رکھنا۔ ـــ بینهم: کے درمیان فساد ڈالنا، چغلخوری کرنا۔ ـ وجهُ الارض: خشک ہونے کی وجہ سے زمین کی سطح کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ نَغُلَ ـُ نُغولة المولودُ: بچہ کا نسب بگڑنا، اسم مصدر، النِّغلة۔ أنغَلَ الجلدَ: کھال کو رنگتے ہوئے خراب کر دینا۔ اسم النَّغْلَة ہے۔ النَّغِل (ح): خچر۔ ـ م نَغِلَة: خراب۔ حرامی بچہ۔ النَّغَل (مص): لوگوں کے درمیان فساد انگیزی، چغل خوری۔ النِّغل م نَغِلَة والنغیل: خراب، حرامی بچہ۔ النَّغلة: چغلخوری۔ النغیلة (ح): چمڑے کو خراب کرنے والا کیڑا۔

○ نَغِلَ قلبُهُ علی: کے خلاف آزردگی یا بغض وکینہ رکھنا۔ نَغِل: ناجائز یا حرامی بچہ، حرامزادہ، ولدالزنا۔ نَغیل: ناجائز بچہ، حرامزادہ، ولدالزنا۔ نغولة حرامی پن، خلاف قانون ہونا، غیر شرعی ہونا، کم اصل ہونا۔

نغم: ۱۔ نَغَمَ ـُ و نَغِمَ ـ نَغْمًا و نَغَمًا ونغَّمَ وتنغّمَ الرجلُ: گانے میں سر نکالنا، کہا جاتا ہے: سکتَ فما نغَمَ بحرف: وہ خاموش رہا اور ایک حرف نہیں بولا۔ ناغمَ مُناغمةً ہُ: سے بہت آہستہ گفتگو کرنا۔ النَّغْم والنَّغَم: سرگوشی، کھسر پھسر، زیرلب بولنا، کان میں کہنا۔ ــ جمع انغام و جمع اناغیم: ہیجان خیز گیت، سریلا گیت، نغمہ شریں، نغمہ، راگ، لے، آہنگ، اسی سے ہے موسیقی کے نغمے۔ النغمة والنَّغَمة جمع نغمات: النَّغْم والنَّغَم کا واحد، سریلی آواز، النغّام: بہت سر نکالنے والا۔ رجلٌ نغوم: سریلی آواز والا۔

۲۔ نَغَمَ ـِ ونَغِمَ ـ نَغْمًا فی الشراب: کو تھوڑا سا پینا۔

○ نَغَمَ ـُ ونَغِمَ ـ نَغْمًا ونَغَمًا: نغمہ گنگنانا، گانا۔ نَغَّمَ وتنغّمَ: نغمہ گنگنانا، گانا۔ نَغْم ونَغَم جمع أنغام: سر، لے، تان، نغمہ، ترانہ، سریلا گیت، نغمہ شیریں، راگ، آہنگ، آواز کی کیفیت، آواز، آواز کا اتار چڑھاؤ، سُر۔ نَغْمَة و نغمہ جمع نَغَمات: سر، لے، تان، نغمہ، ترانہ، سریلا گیت، نغمہ شیریں، راگ، آہنگ، سرگم کا سر، آواز کا اتار چڑھاؤ، زیروبم، لہجہ، دھن، گیت، مشہور گیت یا دھن، تناغم: ہم آہنگی، منغوم: سریلا، رسیلا، خوش آہنگ۔

نغو: نَغا یَنغو نَغْوًا و نَغِیَ یَنغِی نَغْیًا وأنغَی الیه: سے صاف صاف بات کرنا کہا جاتا ہے: سکتَ فلانٌ فما نغی بحرف: وہ خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ ناغَی الصبیَّ: بچے کے ساتھ خوش کن باتیں کرنا۔ المرأةَ: عورت سے عشق بازی کرنا۔ الرجُلَ: کا مقابلہ کرنا، پر غالب آنے کی کوشش کرنا، کے قریب ہونا۔ ــ الموجُ السحابَ: موج کا بادل کی طرف اٹھنا، کہا جاتا ہے: هذا الجبل یناغی السماءَ: یہ پہاڑ اونچا ہونے کی وجہ سے آسمان کے قریب پہنچا ہوا ہے، پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ تناغی القومُ: ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ الناغِیة: کلمہ، لفظ۔ النَّغْوة: اچھی نعمت، اچھا کلام۔ النَّغیة: عمدہ نعمت، عمدہ کلام، افواہ پہلی خبر کہا جاتا ہے: سمعتُ نَغْیَةً من کذا: میں نے ایسی ایسی خبر سنی ہے۔

○ نغا ـُ نَغْوًا ونغیَ ـِ نَغْیًا الی: سے بات کرنا۔ ناغی ہ: کے کان میں سرگوشی کرنا، آرام اور شفقت سے خصوصاً بچے کے ساتھ باتیں کرنا، کی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، ـــ: بچہ کا غوں غاں کرنا، پرندہ کا چہچہانا، چیں چیں کرنا۔

نفّ: ۱۔ نفَّ ـــ نَفًّا الارضَ: زمین میں کوئی چیز بونا، بوائی کرنا۔ ـــ نفًّا السویقَ: ستو پھانکنا۔ النُّفَّیة والنُّفّی: کھجور کی پتیوں کا بنا ہوا گول دسترخوان۔ النفیف: زین کا تنگ۔ النُّفّی جمع نَفافِیّ: ستو چھاننے کی میز وغیرہ۔ النُّفِّیَّة: کھجور کی پتیوں کا بنا ہوا گول دسترخوان۔

۲۔ النَّفْنَف جمع نفانیف: فضائے آسمانی، آسمان زمین کے درمیان کا خلا، دیوار کی چوٹی سے نیچے تک کا حصہ۔ کنواں (من سے تہ تک) پہاڑ کا دیوار کے مانند گوشہ۔ بیابان، دو پہاڑوں کے درمیان گہری گھاٹی۔ دور۔ نفانِفُ الدار: گھر کے اطراف ونواحی النفناف: دو پہاڑوں کے درمیان کا گہرا شگاف، دور۔ عند العامة: برف کے گالے۔

○ نَفَّ ـــ نفًّا: ناک سنکنا یا صاف کرنا، ناس لینا، نفّة: نسوار، ناس، ہلاس نسوار کی چٹکی۔ نفّاف: ناس لینے والا۔

نفأ: النُّفأ: واحد نُفأة: نباتات کے متفرق قطعات، چھوٹے باغ، چراگاہ کے بڑے بڑے رقبہ پر درختوں کا جھنڈ۔

نفت: ۱۔ نفتَ ـــ نَفْتًا و نفتانًا و نفیتًا و نفیتاتٍ القِدرُ: ہانڈی کا زور سے ابلنا صفت نَفوت۔ ــ الرجُلُ: غضبناک ہونا۔ غصہ میں بھر جانا، ـــ نفتًا الدقیقَ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آٹے کا پانی ڈالنے پر پھول جانا۔
نافت تِ القِدرُ: ہانڈی کا زور سے ابلنا ۔۔ الرجُلُ: غضبناک ہونا یا غصہ میں بھر جانا۔ النفِیتة: آٹا جس پر پانی یا دودھ ڈالا جائے تو وہ پھول جائے۔
۲۔ النفـثالین (لئ) کاربن اور ہائیڈروجن کا مرکب جو رنگدار چیزیں بنانے کے کام آتا ہے۔

نفث: نفثَ ـِـ نَفثًا و نفثانًا البصاق من فيه: منہ سے تھوک پھینکنا ۔۔ الجرحُ الدمَ: زخم کا خون نکالنا، ظاہر کرنا ۔۔ الرجُلُ تھوکنا ۔۔ تِ الحیّةُ السمَّ: سانپ کا زہر نکالنا ۔۔ المصدُور: سینہ کی بیماری والے کا تھوک پھینکنا ۔۔ القلمُ: لکھنا ۔۔ فلانًا: پر جادو کرنا کہا جاتا ہے نفث اللّٰهُ الشئَ في قلبه: اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اس کے دل میں ڈال دی۔ نُفِثَ في روعی او قلبی کذا: مجھے کا الہام ہوا۔ فلانٌ ینفث علیَّ غضبًا: وہ مجھ پر غصہ کی شدت سے پھنکارتا ہے نافثَ مُنافثةً ۂ: سے پوشیدگی میں بات کرنا۔ النافِث و النفّاث م نافِثة و نفّاثه: ساحر جادوگر۔ النُفث (مص): بلغم۔ نفثُ الشیطان: غزلیہ اشعار۔ النفثة جمع نفثات: نفث کا اسم مرّہ، کہا جاتا ہے۔ ما أحسنَ نفثاتِ فلانٍ: اس کے شعر کتنے عمدہ ہیں۔ النُفاثة تھوک۔ دمٌ نفِیث: زخم سے بہنے والا خون۔ المنفوثُ مفع۔ رجُلٌ منفوث: مسحور، جادو کیا ہوا۔

○ نَفثَ ـِـ نَفثًا ۂ: کچھ تھوکنا، کھنکارنا، (بلغم) تھوکنا، خارج کرنا، کھانس کر نکالنا ۔۔ ۂ: سانپ کا زہر کی پھکار مارنا ۔۔ ۂ: (تمباکو نوش کا) دھواں نکالنا، چھوڑنا (پائپ یا حقے کے) کش لینا ۔۔ ۂ کو زبان سے نکالنا، منہ سے کہنا، بیان کرنا ۔۔ ۂ في: کے دل میں کچھ ڈالنا، کو میں منتقل کرنا، نفث: کھنکارنا، بلغم نکالنا، بلغم تھوکنا، لعاب دہن، تھوک۔ نفث الشیطان: عاشقانہ یا شہوانی شاعری۔ نفثة جمع نفثات: کنکھارنا، بلغم تھوکنا لعاب دہن، تھوک، جمع مادہ جو کھنکار کر نکالا گیا ہو یا خارج کیا گیا ہو، بلغم، اخراج، فراط، وفور، بہاؤ، گالی گلوج، سب و شتم، گالیوں کی بوچھاڑ، الزامات، الہامات۔ نفثات الاقلام: ادبی تصنیفات، نُفاثة: لعاب دہن تھوک۔ طائرة نفّاثة: جٹ ہوائی جہاز، فوارے والا ہوائی جہاز، فواری طیارہ، نفّاثي: جٹ، فوارے والا۔ تسییر نفّاثي: جٹ والا، فواری۔ قوت سائقه (Jet-propulsion)۔ نفّاثة جمع نفّاثات: گرہوں پر پھونکنے والی عورت، جادوگرنی، ساحرہ۔

نفج: ا۔ نفَجَ ـُـ نُفوجًا و نفَجانًا و نُفوجًا الارنبُ او اليربوعُ: خرگوش یا جنگلی چوہے کا دوڑ کر نکل جانا۔ ۔۔ ت الريحُ: ہوا کا تیزی سے چلنا ۔۔ ت الطريقُ بالقوم: راستہ میں قوم کا اچانک نمودار ہونا ۔۔ نفَجًا الانسانُ: جھوٹا فخر کرنا ۔۔ تِ الفرّوجةُ: مرغی کے بچے کا انڈے سے نکلنا ۔۔ الارنبَ و غیرها: خرگوش کو بھڑکا کر نکالنا ۔۔ الشئَ: کو اٹھانا، کی تعظیم کرنا ۔۔ السقاءَ: مشک بھرنا۔ أنفجَ الحالبُ: دوہتے وقت برتن کو تھن سے علیحدہ کرنا ۔۔ الارنبَ: خرگوش کو بھڑکا کر نکالنا۔ تنفّجَ: بلند ہونا ۔۔ الرجُلُ جھوٹا فخر کرنا، غیر واقعی صفت پر فخر کرنا ۔۔ ت الريحُ علی القوم: لوگوں کی غفلت میں ہوا کا آندھی بن کر آنا۔ انتفجَ: بلند ہونا ۔۔ الرجُلُ: جھوٹا فخر کرنا، غیر واقعی صفات پر فخر کرنا ۔۔ الارنبُ: خرگوش کا دوڑنا، کودنا، کہا جاتا ہے: انتفجت منه الارنبُ: خرگوش اس سے کود کر نکل گیا ۔۔ الارنبَ و غیرها: خرگوش وغیرہ کو بھڑکا کر نکال دینا۔ استنفجَ الشئَ: کو نکالنا، ظاہر کرنا، بھڑکانا، کہا جاتا ہے: ما الذي استنفجَ غضبكَ: تیرے غصہ کو کس چیز نے بھڑکایا۔ النافِجُ (فا) صوتٌ نافِجٌ: کرخت آواز، النافجة جمع نوافِج: نافج کا مونث۔ بہت بارش برسانے والا بادل، ہوا کا زور کا جھونکا، بیٹی، آخری پسلی کہا جاتا ہے: هو نُفُجُ الحقیبة: وہ موٹے سرین والا ہے۔ امرأة نُفُجُ الحقیبة: بڑے سرین والی عورت۔ النفّاج: مغرور، متکبر۔ النفیجة جمع نفائج: کمان۔ الأنفجانيّ: کلام میں افراط کرنے والا۔ المنافِج: بڑائیاں، بزرگیاں، عظمتیں، دبدبے۔ بعیرٌ مُنتفِج: اونٹ جس کے پہلو نکلے ہوئے ہوں۔ المنفُوج: وسیع پہلوؤں والا اونٹ۔

۲۔ النافِجة جمع نوافِج: مشک کا برتن، نافہ (فارسی لفظ) النِفاجة: آستین کے نیچے کا مربع پارچہ ۔۔ النفیج جمع نُفُج: قوم میں اجنبی شخص جو نہ تو صلح کرے نہ فساد۔ النُفُج: بوجھل اور سست لوگ۔

○ نفَجَ ـُـ نفجًا و نفَجانًا و نُفوجًا: یکا یک اٹھ بیٹھنا، بھاگ کھڑے ہونا، کودنا، چھلانگنا، پھاندنا، اچھلنا۔ چھلانگیں لگاتے ہوئے جانا، بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا، ڈینگ مارنا۔ تنفّجَ: بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا، ڈینگ مارنا۔ انتفجَ بمعنی (نفجَ ـُـ نفجًا و نفجانًا و نفوجًا) ۔۔ نفج: شیخ، بڑ، ڈینگ۔ نفّاج: شیخی خورہ، آں دکھاتے [illegible] والا عمارت [illegible] جمع نوافِج: مشک رکھنے والا تھیلا یا برتن۔

نفح: نفَحَ ـَـ نَفحًا و نفَحانًا و نُفوحًا و نُفاحًا الطیبُ: خوشبو مہکنا ۔۔ ت الريحُ: ہوا کا چلنا، پہلی بار چلنا ۔۔ العِرقُ: رگ سے خون نکلنا۔ تِ الدابّةُ الرجُلَ: جانور کا آدمی کو کھر کے سرے سے مارنا ۔۔ فلانًا بالسیف: کو تلوار کی ہلکی سی ضرب لگانا ۔۔ ۂ بكذا: کو کچھ دینا۔ الشئَ: کو سے ہٹانا ۔۔ لمّتهُ: بالوں میں کنگھی کرنا۔ نافحَ مُنافحةً ۂ: سے جھگڑا کرنا ۔۔ عن فلانٍ: کا دفاع کرنا۔ انتفحَ بفلان: کا مقابلہ کرنا ۔۔ إلی موضع کذا: کی طرف لوٹنا۔ النفحُ (مص) من الرياح: سردی میں ہوا کا چلنا (گرمی میں ہوا کے چلنے کو لفح کہتے ہیں) کہا جاتا ہے: نِیّةٌ نفحٌ: عرصہ سے منصوبے باندھا ہوا، ارادہ۔ النفحة جمع نفحات: نفح کا اسم مرّہ۔ ہوا کا جھونکا، بخشش، عطیہ، کہا جاتا ہے: لا یزال لفلان نفحاتٌ من المعروف: فلاں شخص کے مہربانی کی بخششیں جاری ہیں۔ ۔۔ من الالبان: خالص دودھ۔ نفحةُ الطیب: خوشبو کی مہک۔ نفحة الريح: ہوا کا جھونکا۔ نفحةُ الدم: خون کا فوارہ۔ النفّاح: فیاض۔ طعنةٌ نفّاحةٌ: زور سے خون نکالنے والا نیزہ۔ النفُوح من النوق: اونٹنی جس کا دودھ ٹپکتا رہے ۔۔ من القِسِيّ: تیر دور پھینکنے والی کمان۔ ریحٌ نفُوحٌ: تیز چلنے والی ہوا۔ النِفیح و المِنفَح: بے جا مداخلت کرنے والا۔ الإنفحة و الإنفِحة و الإنفَحّة و المِنفَحة: بکری کے بچے کے معدہ کا پنیر۔

○ نفَحَ ـَـ نفحًا و نفَحانًا و نفاحًا: (خوشبو کا) پھیلنا، بکھرنا، خوشگوار بو نکالنا، مہکنا، معطر یا خوشبودار ہونا، (ہوا) کا چلنا، ۔ ۂ ب: کو کا تحفہ بنانا، کو کچھ پیش کرنا ۔۔ ۂ ۂ: کو کی دعوت دینا۔ نافحَ عن: کی حفاظت کرنا، کا دفاع کرنا۔ نفحة جمع نفحات: ہوا کا جھونکا، جھکڑ، سانس، خوشبو پھیلانا، خوشبو، تحفہ۔ مِنفَحة: جما ہوا دودھ، پنیر مایہ۔

نفخ: نفَخَ ـُـ نفخًا بفمه: پھونک مارنا، کہا جاتا ہے: نفخ فی النار و نفخ النار: اس نے آگ میں پھونک ماری یا آگ کو پھونک ماری ۔۔ الضحی: دن چڑھنا ۔۔ تِ الريحُ: ہوا کا اچانک چلنا ۔۔ ۂ الطعامُ: کو کھانے کا سیر کرنا، کہا جاتا ہے: نفخ شدقیه: اس نے تکبر کیا۔ نفخ الشیطانُ في انفه: اس نے اپنے متعلق ایسی ڈینگ ماری جس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ نفّخ بفمه: پھونک مارنا۔ تنفّخ: پھولنا۔ انتفخ: پھولنا [illegible]

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الشیءُ: بلند ہونا۔ــ النہارُ: دن چڑھنا۔ النافِخ (فا): کہاجاتا ہے: مابالدار نافِخُ ضَرَمَةٍ: گھر میں کوئی نہیں۔ النَفْخ (مص): فخر، تکبر۔ کہاجاتا ہے: فلانٌ ذونَفخ: فلاں شخص متکبر ہے۔ النَفَخ: جانوروں کے ٹخنے کا ورم۔ النُفُخ: بھری جوانی والا۔ کہاجاتا ہے: شابٌ نُفُخٌ و جاريةٌ نُفُخٌ: بھرپور جوان، بھرپور جوانی والی لڑکی۔ النَّفْخة: نفخ کا اسم مرۃ، کھانے وغیرہ سے پیٹ کا پھلاؤ۔ نفخة الشباب: بھری جوانی۔ نَفْخَةُ الربيع: موسم بہار کی تروتازگی۔ النُفّاخ: ورم کا پھلاؤ۔ النُفّاخة ج نُفاخات: پانی کا بلبلہ، مچھلی کے پیٹ میں ایک پھولی ہوئی چیز۔ النافُوخ: بجائے۔ یافوخ: چندیا۔ النفيخ (مص): آگ میں پھونکنے پر مقرر کیا ہوا۔ کہاجاتا ہے: رجلٌ أنفُخانٌ و اِنفِخانٌ و أنفُخانيّ و اِنفِخانيّ: پُر گوشت موٹا۔ مؤنث میں ان سب کے ساتھ (ۃ) آجاتی ہے۔ المِنفاخ و المِنفَخ ج منافيخ و مَنافِخ: لوہار کی دھونکنی، دھونکنی، پھونکنی، ہوا کش، ہوا بھرنے والا پمپ۔ مَنافِخُ الشيطان: شیطانی وسوسے۔ المَنفوخ (مفع): بڑے پیٹ والا، موٹا، بزدل۔ النَّفْخ: فخر، تکبر، کہاجاتا ہے: فلانٌ ذونَفخ: فلاں شخص متکبر ہے۔ النَفَخ: جانوروں کے ٹخنے کا ورم۔ النُفُخ: بھری جوانی والا ہونا، کہاجاتا ہے: شابٌ نُفُخٌ وجاريةٌ نُفُخٌ: بھرپور جوان، بھرپور جوانی والی لڑکی۔ النَفْخة: نفخ کا اسم مرۃ، سانس، ریح۔ نفخةُ الشباب: بھری جوانی۔ نَفخَةُ الربيع: موسم بہار کی تروتازگی۔ النُفّاخ: ورم کا پھیلاؤ۔ النُفّاخة جمع نفّاخات: پانی کا بلبلہ، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا پھکنا۔ النافُوخ: (بجائے یافوخ) چندیا۔ النَفيخ (مص): آگ پھونکنے پر مقرر کیا ہوا، کہاجاتا ہے: رجلٌ أُنفُخانٌ و اِنفَخانٌ و أُنفُخاني و اِنفِخانِي: پُر گوشت موٹا، مؤنث میں ان سب کے ساتھ ۃ آتی ہے۔ المِنفاخ والمِنفَخ جمع مَنافِيخ و مَنافِخ: لوہار کی دھونکنی، دھونکنی، پھونکنی، ہوا کش، ہوا بھرنے والا پمپ۔ مَنافِخ الشیطان: شیطانی وسوسے، المَنفوخ (مفع): بڑے پیٹ والا، موٹا، بزدل۔

○ نَفَخَ ـُ نَفْخًا: ہوا کا چلنا، ہانپنا، سانس پھولنا، سانس لینا۔ ــــ ہ/فی: میں ہوا بھرنا، (ٹائر میں) ہوا بھرنا، غبارہ میں گیس بھرنا۔ ــــ ہ فی: کسی آلہ موسیقی پر دھن بجانا۔ ــــ ہ فی: میں کی سرگوشی کرنا کے دل میں کچھ ڈالنا۔ ــــ ہ: کو فخر سے بھر دینا، کو بہت مغرور کر دینا، کو پھلانا، مغرور کرنا، کو نازاں کرنا، کے لئے موجب فخر ہونا، کو (کامیابی کا) بہت خوش کرنا۔ نَفَخَ فی البُوق: بگل بجانا۔ نَفَخَ فی روحه: میں روح پھونکنا، جان ڈالنا۔ نفخ فی صورته: کو پیدا کرنا۔ نفخ فی زَمّارةِ روحه: کے مزاج کو برانگیختہ کرنا۔ نفخ الشمعة: موم بتی، قندیل، یا شمع پھونکوں سے بجھانا۔ نفخ شِدْقَيه: مغرور ہونا، متکبر ہونا۔ اِنتَفَخَ: ہوا کا بھرنا، ہوا سے بھر جانا، سوجنا، بلند ہونا، پھیلنا۔ انتفخ سَحْرُهُ اور انتفخت مساحِرُهُ: (خوف یا تکبر سے) پھیپھڑوں کا ہوا سے بھر جانا۔ نَفْخَة: ہوا کا جھونکا، سانس، جھکڑ، نفخ، ابھار، سوجن، ورم، خودفریبی، خودپسندی، تکبر، نخوت، کبر، نفخة كاذبه (كاذبة): خودبینی، شیخی، لاف زنی، خودپسندی، عجب۔ نَفّاخ: ابھارا کرنے والا، جسے ابھارا ہو۔ نُفّاخ: سوجن، ورم۔ نُفّاخة: مثانہ، پھکنا، بلیڈر، بلبلہ، حباب۔ مِنفَخ جمع مَنافِخ: دھونکنی، نافخ: پھونکیں مارنے والا۔ مُنتَفِخ: پھولا ہوا، سوجا ہوا، ہوا بھرا ہوا، مغرور، ہوا یا گیس بھرا ہوا۔

نفد: ۱۔ نَفَدَ ـُ نَفْدًا القومَ: لوگوں سے آگے بڑھ جانا۔ نَفَّدَ الحسابَ (ت): حساب کا تفصیل سے ذکر کرنا۔ أنفَدَ القومَ: لوگوں کو چیر کر ان میں گھسنا اور بیچ میں چلنا۔

۲۔ نَفِدَ ـَ نَفَدًا و نَفادًا الشيءُ: ختم ہونا، فنا ہونا، کہاجاتا ہے: نَفِدَ زادُ القومِ: لوگوں کا زاد راہ ختم ہوگیا۔ أنفَدَ القومُ: قوم کا مال اور توشہ ختم ہو جانا۔ ــ ت البئرُ: کنویں کے پانی کا سوکھ جانا۔ ــ الشيءَ: کو خرچ کر دینا۔ نافَدَ مُنافَدَةً ہ: باہم حاکم کے پاس جانا، جھگڑا کرنا ایک دوسرے کی حجت کو باطل کرنا۔ تَنافَدَ الخصمانِ إلى القاضي: دو مخالفوں کا اپنا معاملہ قاضی (جج) کے پاس لیجانا اور ہر ایک کا اپنے دلائل پیش کرنا۔ ــ القومُ: لوگوں کا آپس میں جھگڑنا۔ اِنتَفَدَ الشيءَ: کو خرچ کر دینا، ختم کر دینا۔ ــ الحقَّ: پورا حق لینا، کہاجاتا ہے: انتفذ من عَدْوِه: اس نے دوڑ میں اپنا پورا حصہ لیا۔ ــ اللبنَ: دودھ دوہنا۔ اِستَنفَدَ الشيءَ: کو فنا کرنا، خرچ کرنا۔ ــ وُسْعَهُ: اپنی پوری طاقت لگا دینا۔ المُنافِد (فا)، خصمٌ مُنافِدٌ: مخالفت میں پورا زور لگانے والا مدمقابل۔ المُنتَفِد فا: کہاجاتا ہے: قعد منتفِدًا: وہ ایک طرف ہو کر بیٹھا۔ المُنتَفَد (مفع): کہاجاتا ہے: في هذا الشيء منتفدٌ عن غيره: اس چیز میں بہ نسبت غیر کے وسعت ہے۔ فلانٌ مُنتَفَدُ فلانٍ: جب اس کے پاس کچھ نہ رہے تو وہ اس کو خرچ دے کر اس کی مدد کرتا ہے۔

○ نَفِدَ ـَ نَفَدًا و نَفادًا: خالی ہو جانا، ختم ہو جانا، خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا، کم رہ جانا، کتاب وغیرہ کا کوئی نسخہ نہ رہنا۔ نفد لديه معين الصبر: کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا۔ أنفَدَ و استَنفَدَه: کو خرچ کر ڈالنا، خالی کر دینا، ختم کر دینا، کو پورا پورا چکھنا، سے پورا پورا لطف اندوز ہونا، استنفد كلَّ وُسْع: ہر امکان سے فائدہ اٹھانا، سب کچھ کر ڈالنا۔ نَفْدَة جمع نَفَدات: (حساب کی کتاب میں) اندراج لکھی ہوئی مد۔ النفود: شمالی نجد کے ایک ریگستان کا نام۔ نافد الصبر: بے صبر، نافِدَة: خلا۔

نفذ: نَفَذَ ـُ نَفْذًا و نُفوذًا و نَفاذًا الشيءُ الشيءَ: چیز کا چیز کو چھید کر پار ہو جانا۔ کہاجاتا ہے نفذ السهمُ الرميّةَ و فيها و منها: تیر کا شکار کے پیٹ میں گھس کر پار ہو جانا۔ ــ فلانٌ القومَ: لوگوں سے آگے نکل جانا اور انہیں پیچھے چھوڑ جانا۔ ــــ نُفوذًا و نَفاذًا الأمرُ او القولُ: حکم یا قول پورا ہونا۔ ــــ المنزلُ إلى الطريق: منزل کا راستہ سے متصل ہونا۔ ــ الطريقُ: راستہ کا عام گزرگاہ ہونا۔ صفت نافِذٌ یعنی عام۔ ــــ الكتابُ إلى فلان (خط کتاب تحریر) کا کسی تک پہنچنا۔ ــ الرجلُ في الأمر: کام کامیابی سے چلانا، کام میں ماہر ہونا۔ ــ لوجهه: اپنی حالت پر گزر جانا۔ نَفَّذَ السهمُ الرميّةَ: تیر کو شکار کے پار کر دینا۔ ــــ الكتابَ إلى فلان: (کتاب، خط، تحریر) کسی کو بھیجنا۔ ــ الرجلُ القومَ: لوگوں کے آگے گزر جانا، لوگوں کے بیچ میں چلنا۔ ــ الحاكمُ الأمرَ: حاکم کا حکم جاری و نافذ کرنا۔ نافَذَهُ: پر مقدمہ کرنا۔ أنفَذَ السهمَ الرميّةَ: تیر کو شکار کے پار کر دینا۔ ــــ الكتابَ إلى فلان: کو کے پاس بھیجنا۔ ــ الرجلُ القومَ: کے آگے چلا جانا، کے درمیان چلنا۔ ــــ الحاكمُ الأمرَ: حکم جاری و نافذ کرنا۔ ــ عهدَهُ: عہد عمل میں لانا۔ تَنافَذَ القومُ إلى الحاكم: قوم کا حاکم کے پاس جانا، اپنا مقدمہ حاکم کے پیش کرنا، عدالت میں وکالت کرنا۔ النافِذ (فا): ہر کام کو کر گزرنے والا، انسان کے جسم کے سوراخوں میں سے ایک جیسے منہ ناک وغیرہ (نوافذ کا واحد) طريقٌ نافِذ: عام گزرگاہ، شاہراہ۔ امرٌ نافِذ: سخت حکم جس کی فرمانبرداری کی جائے۔ النافِذة جمع نَوافِذ: نافذ کا مؤنث، کھڑکی، روشن دان، کہاجاتا ہے: هذه طعنة نافِذة: گھسنے یا چبھنے والا گھاؤ۔ النَفَذ جمع أنفاذ: جاری

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا۔ (کہاجاتا ہے: أَمَرَ بنفذِ الکتاب: اس نے خط کا متن بھیجنے کا حکم دیا۔) پھٹن، شگاف (کہا جاتا ہے: هـذا طعنة لها نفذٌ: یہ گھاؤ سوراخ دار ہے) نکلنے کی جگہ۔ النُفُذَہ جمع نُفَذ: مہرہ۔ النَفَاذ والنَفُوذ: ہر کام کو کر گزرنے والا۔ النَفِیذ: بمعنی نافِذ امرٌ نَفِیذٌ حکم جس کی فرمانبرداری کی جائے۔ التَنفِیْذ (مص): السُلطةُ التنفیذیة: حکومت۔ المَنفَذ جمع مَنَافِذ: گزرگاہ۔ المَنفِذ جمع مَنَافِذ: کسی چیز کے نفوذ کرنے کی جگہ۔ مَنَافِذُ الانسان: انسان کے جسم کے سوراخ، جیسے منہ ناک وغیرہ۔ المُتَنَفَذ: کشادگی، گنجائش۔

○ نَفَذَ ـُ نَفَاذًا ونُفُوذًا ہ / من: کو چھیدنا، سے گھسنا، کو بیدھنا، سے رستہ نکالنا، سے گزرنا، کے آر پار ہونا۔ — ہ ب سے گزر جانا۔ — إلی: میں گھس جانا، داخل ہونا، سے گزرنا۔ — فی / من: دشمن کی رکاوٹ توڑ کر نکل جانا، — إلی: کسی تک پہنچنا، کسی جگہ پہنچنا، کے پاس جانا، پر منتج ہونا۔ (دروازہ یا کھڑکی کا) کی طرف کھلنا، (عمارت وغیرہ کا) سے متصل ہونا، سے ملا ہوا ہونا، سے پیوستہ ہونا۔ — فی: کو اچھی طرح یا مہارت سے کرنا۔ —: پر عمل ہونا، کی تعمیل ہونا، عمل میں لایا جانا، قانونی طور پر درست ہونا، موثر ہونا، کارگر ہونا، عمل درآمد کے قابل ہونا، نافذ العمل ہونا۔ نَفَّذَ و أَنفَذَ ہ: کو بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کی تکمیل کرنا، کو انجام دینا، کو پورا کرنا، کو کرنا، وجود میں لانا، (فرض) پورا کرنا، کو جامہ عمل پہنانا، (قرارداد وغیرہ) کو نافذ کرنا، پر عمل درآمد کرنا۔ (پروگرام کی) تکمیل کرنا۔ — ہ فی: کے خلاف (سزا، حکم سزا) بجالانا، کی تعمیل کرنا۔ — ہ الی: کو کے پاس بھیجنا۔ تَنَفَّذَ: کی تعمیل ہونا، عمل میں آنا، بجالایا جانا۔ نَفَذ جمع انفاذ: سوراخ، باہر نکلنے کا راستہ، شگاف، درز، موکھا، روشن دان، روزن، دہانہ، نکاس، خلاصی، بچاؤ، فرار۔ نَفَاذُ البصیرة: ژرف نگاہی، تیز نگاہی، بصیرت، ذکاوت نکتہ رسی، فہم فراست۔ نُفُوذ: رسائی، نفوذ، داخل ہونا، گھسنا، سرایت، تاثیر، اثر، قوت اثر، زور کمال، کاری و موثر ہونا، تیر بہدف ہونا، اثر نفوذ، سطوت، بزرگی، آبرو، عزت وشہرت، نیک نامی، عمل، اختیار۔ نفوذ مطلق: مکمل اختیارات، غیر محدود اختیار۔ دونفوذ: ذی اثر، صاحب اختیار، بارسوخ۔ منفذ المیاہ: بند کا دروازہ، پانی کے بہاؤ پر کنٹرول کیلئے)۔ المفذ البحری: سمندر تک رسائی، دخل فی طور (دور) التنفیذ: موثر ہونا۔ نافذ ہونا۔ عونُ التنفیذ: سرکاری افسر، قرقی والا، بیلف، قسم التنفیذ: (عدالت) کا شعبہ عاملہ۔ لَجْنَةٌ تنفیذیةٌ: مجلس عاملہ۔ أَصْبَحَ نافِذا: موثر ہونا، نافذ ہونا۔ الحکم نافِذٌ فیه: کی سزا کے حکم پر عمل ہوگا، اس حکم کو قانونی طاقت حاصل ہے۔ نافِذِ الکلمة: بارسوخ، صاحب اختیار، ذی اثر، طاقت ور۔ نافِذُ المفعول: قانونی، موثر، نافذ العمل، امرٌ نافذ: سخت حکم۔ نافِذَة: زوکٹ (Wicket) نافِذَةُ الاطلاق: بھاگنے کی راہ، بچنے کی صورت، مفر، خامی، سقم، توپ یا بندوق چلانے کے سوراخ، موکھا، جھروکہ، روشندان۔ مُنَفِّذُ الوصیة: وصیت کی تکمیل کرنے والا۔ عونٌ مُنَفِّذ: بیلف، قرقی والا، سرکاری افسر مُتَنَفِّذ: ذی اثر، بااثر۔

نفر ۱۔ نَفَرَ ـِ نُفُورًا و نِفَارًا و نَفِیرَاتٍ الدابّةُ من کذا: سے جانور کا بدکنا، صفت نَافِرٌ و نَفُورًا ـ ـِ نُفُورًا و نِفَارًا و نَفِیرًا القومُ للقتال او الامر: لڑائی یا کام کیلئے لوگوں کا چل دینا۔ — نَفْرًا و نُفُورًا و نِفَارًا و نَفَرَانًا الظبیُ و غیرُہُ: ہرن وغیرہ کا بھاگنا، دور ہونا۔ — نَفْرًا من کذا: سے نفرت کرنا، کو ناپسند کرنا، کہاجاتا ہے: نَفِرتُ من صحبة فلان: میں نے فلاں شخص کی صحبت کو ناپسند کیا۔ — عن کذا: سے اعراض کرنا، سے دور رہنا۔ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ — فلانًا: پر غالب آنا۔ — إلی الشیٔ: کی طرف جلدی جانا۔ نَفْرًا و نُفُورًا الحاجُ مِنَی: حاجیوں کا منی سے واپس ہونا اور مکہ جانا۔ — نُفُورَاتِ العینُ و غیرھا: آنکھ کا سوجنا۔ نَفَّرَہُ: کو بھگانا۔ — ہُ علی فلانٍ: کے پر غالب ہونے کا فیصلہ دینا۔ — ہُ الشیٔ و علی الشیٔ و بالشیٔ: کو پر غالب کرنا۔ — عن فلانٍ: کو برا لقب دینا۔ نَافَرَ نِفَارًا و مُنَافَرَةً ہُ: کے پاس فیصلہ کیلئے جانا، پر حسب و نسب میں فخر کرنا، کہاجاتا ہے: نافرتُهُ الی القاضی فَنَفَّرَنِیْ علیه: میں اسے قاضی کے پاس لے گیا تو قاضی نے میرے حق میں اس پر غالب ہونے کا فیصلہ دیدیا۔ اَنفَرَہُ: کو بھگانا۔ — القومُ: قوم کے اونٹوں کا بھاگ جانا۔ — القومُ فلانًا: لوگوں کا کسی کی مدد کرنا۔ — الحاکمُ فلانا علی فلان: حاکم کا فلاں کے فلاں پر غلبہ کا حکم دینا۔ تَنَفَّرَ: بمعنی نَفَرَ — تَنَافَرَ القوم للامر: کام کے لئے چل دینا۔ — الرجُلانِ: آپس میں فیصلہ کیلئے جانا، باہم فخر کرنا۔ اِسْتَنْفَرَ الظبیُ: ہرن کا بھاگ جانا۔ — ہُ: کو بھگانا۔ — القومَ: قوم سے مدد چاہنا، قوم کو جنگ کیلئے جمع کرنا۔ — فلانٌ بثوبی: [illegible] النَافِر (فا) جمع نُفَّر و نُفَّر: غالب، النَافِرَة: نافر کا مونث۔ نَافِرَةُ الرجُل: رشتہ دار، واقف لوگ، طرفدار۔ الطائِرَة النافوریّة: تیز رفتار طیارہ۔ النَفْر (مص): النافر کی جمع: تین سے دس تک کی جماعت۔ جنگ جوؤں کا گروہ، بھگوڑوں کا گروہ، کام میں آگے رہنے والوں کا گروہ۔ یومُ النَفْر: ذی الحجہ کی تیرھویں تاریخ جبکہ حاجی منی سے واپس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کہاجاتا ہے: عِفْرٌ نِفْرٌ و عِفْرٌ نِفْرٌ علی الإتباع: خبیث، سرکش، اسی طرح عفریةٌ نِفریةٌ و عِفریتٌ نِفرِیتٌ و عِفریتةٌ نِفریتةٌ، النَفَر جمع أنفَار: سارے لوگ، تین سے لے کر دس تک کی جماعت، کہاجاتا ہے۔ ثلاثةَ نفرٍ یا ثلاثة أَنفَارٍ: تین شخص، نَفَرُ الرجُل: آدمی کا خاندان۔ یومُ النَفَر: بمعنی یوم النَفْر النَفْرَة: نفر کا اسم مرة۔ تین سے دس تک کی مردوں کی جماعت۔ بھگوڑوں کا گروہ، جنگجوؤں کا گروہ، کام میں آتے رہنے والوں کا گروہ۔ نَفْرَةُ الرجُل: مرد کا خاندان، طرفدار۔ النُفْرَة: حکم۔ — و النُفَرة: نظر بد سے بچاؤ کے لئے بچوں کا تعویذ۔ النِفَار (مص): اڑیل ہونا، کہاجاتا ہے: فی الدابة نفارٌ: جانور میں اڑیل پن ہے۔ النُفَارَة: حکم، جو کچھ غالب مغلوب سے لے۔ النَفَارِیر: نُفرور کا واحد، چڑیاں۔ النَفُور: بھاگنے والا، بہت تیز بھاگنے والا۔ یومُ النُفُور: عید قربان کا تیسرا دن جب لوگ منی سے مکہ معظمہ کا رخ کرتے ہیں۔ نُفُورَةُ الرجل: مرد کا خاندان، طرفدار، النفیر (مص) جمع أنفار: دس سے کم لوگوں کا گروہ، لڑائی کی طرف کوچ کرنے والے لوگ۔ بگل۔ — العام: عوام کا دشمن سے مقابلہ کیلئے اٹھ کھڑا ہونا، کہا جاتا ہے: ماھو بنفیرِ فلان: وہ حسب و نسب میں اس کا ہمسر نہیں۔ یومُ النَفِیر: عید قربان کا تیسرا دن جب لوگ منی سے مکہ معظمہ کا رخ کرتے ہیں۔ المُستَنفِر: بھاگنے والا، تیز بھاگنے والا۔ المُستَنفَر (مفع): [illegible] ہوا۔ المَنفُور (مفع): مغلوب۔ الیَنفُور: بھاگنے والا۔ بہت تیز بھاگنے والا۔

۲۔ النَافُور عن النصاریٰ: (عیسائیوں کی) دعاؤں کی کتاب، ساغر پوش، نیاز چڑھی روٹی، عشائے ربانی۔

○ نَفَرَ ـِ نُفُورًا و نِفَارًا: (جانور کا) بھڑکنا، بدکنا، بھاگ نکلنا، فرار ہو جانا، (جانور میں) بھاگ پڑنا، ہر بڑی مچنا، — نَفْرًا: بھاگنا، فرار ہونا، — من: سے نفرت کرنا، بیزار ہونا، سے ناپسندیدگی یا کراہت

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رکھنا۔ ـــ من / عن: سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا، الگ رہنا۔ پرہیز کرنا، باز رہنا، سے کترانا، بھاگنا ـــ ل / إلى: کو بھاگ دوڑ کر کرکے کرنا، کو جلدی کرنا، کو کرنے کے لئے دوڑ پڑنا۔ ـــ ـِ نُفُوراً: پھولنا، سوجنا، پھیلنا، ابھرنا، باہر کو نکلنا، پھوٹ نکلنا، نکل آنا، ابھرا ہوا ہونا، نکلا ہوا ہونا، باہر ہونا۔ نَفَّرَ ہ: کو چونکا دینا، ڈرا دینا، گھبرا دینا، بوکھلا دینا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، ڈرا کر بھگا دینا، کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، کو چلانا، ہانکنا، دھکا دینا۔ ـــ ہ من: کو سے نفرت سے بھر دینا، میں کیلئے ناپسندیدگی، نفرت، کراہت یا بدمزگی ابھارنا، کو کیلئے ناگوار یا گھناؤنا بنا دینا، کو سے بیگانہ کرنا، منحرف کرنا، برگشتہ کرنا، کو سے پھیر دینا، موڑ دینا، روگرداں کر دینا، کو سے پرایا کرنا، دور کرنا، پھیر لینا، کا سے دل توڑ دینا، کو سے ڈرا کر روکنا، باز رکھنا، کے سدراہ ہو جانا، کی میں خوشی، سرور، لذت خراب کرنا، کو سے غیر مطمئن کر دینا، نَافَرَ ہ / ہ: سے پرہیز کرنا، بچنا، باز رہنا، الگ رہنا، اجتناب کرنا۔ ـــ ہ: سے دور رہنا، سے نفرت کرنا، کو ناپسند کرنا۔ ـــ ہ: کی تغلیط کرنا، تردید کرنا، کو رد کرنا، سے متضاد، خلاف، بے جوڑ یا کے ناموافق ہونا۔ تَنَافَرَ: ایک دوسرے سے پرہیز کرنا، بچنا، باز رہنا، الگ رہنا، اجتناب کرنا، باہم ٹکرانا، متصادم ہونا، الگ ہو جانا، ناموافق ہونا، ناسازگار ہونا، مضر ہونا، بے موقع، بے محل، غیر مطابق یا ناموافق ہونا، بے جوڑ، خلاف یا متضاد ہونا، باہم کراہت پیدا کرنے والا ہونا، دور کرنے والا ہونا، ناگوار ہونا۔ إسْتَنْفَرَ: ڈر کر بھاگنا، ـ ہ علی: سے لڑنے کا تقاضا کرنا۔ ـ ہ: کو پکارنا۔ ـ علی: کے خلاف لڑائی چھیڑنا۔ نَفَر جمع أنْفَار: جماعت گروہ، رسالہ (فوجی)، فوجی لوگ، شخص، فرد، فوجی سپاہی، سپاہی کے درجے کا فوجی، فوج کا سپاہی، جوان، مرد۔ نَفْرَة: نفرت، کراہت، ناپسندیدگی، گریز، بدمزگی، نُفُور: بدکنا، فرار (جانور کا) بھاگ جانا، رفو چکر ہو جانا، چھلانگ مارنا، بھاگڑ، بھڑک کر دوڑنا بھاگنا، نفرت، ناپسندیدگی، کراہت، بدمزگی، گریز، خفگی، نارضامندی، ناخوشی، آزردگی، اجنبیت، بیگانگی، بے مہری، دل برداشتگی، کشیدگی، نَفُور: بھڑکنے والا، آسانی سے خوف زدہ ہو جانے والا، ڈر کر بھاگنے والا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، بزدل، ڈرپوک، بودا، کم گو، بے حوصلہ یا خود اعتمادی سے محروم، جھجکنے والا، شرمیلا، کم آمیز، پیچھے پیچھے رہنے والا۔ نَفِير جمع نُفَار و أنْفِرَة: جتھا، پارٹی، جماعت، گروہ، رسالہ (فوجی)، جنگ کیلئے روانگی، بگل، ترم۔ نَفِيرٌ عامٌّ: ہتھیار اٹھانے کا عام پیغام، فوج میں جبری بھرتی، خطرے کی اطلاع عام۔ نَافُورَة جمع نَوَافِير: فوارہ، چشمہ، نَوْفَرَة جمع نَوافِر: فوارہ، چشمہ، مُنَفِّر ومُنْفِر: کریہہ، گھناؤنا، نفرت انگیز، ناپسندیدہ۔

نفز: نَفَزَ ـِ نَفْزًا ونُفُوزًا ونَفَزَانًا الظبيُ: ہرن کا زقند بھرنا۔ ـــ الرجلُ: مرنا۔ نَفَّزَہُ: کو کودانا ـــ ت المرأۃُ ولدَها: عورت کا اپنے بچے کو اچھالنا ـــ و أنْفَزَ السهمَ: تیر کی سیدھ دیکھنے کے لئے اس کو ناخن پر گھمانا۔ تَنَافَزُوا: باہم ایک دوسرے پر اچھلنا، کودنا۔ النَفِيز و النَفِيزَة: مکھن جو مٹکی میں اکٹھا نہ ہو سکے۔ النيفوز من الظباء: بہت چھلانگیں مارنے والا ہرن۔

نفس: نَفَسَ ـُ نَفْسًا ہُ بنفسٍ (اي بعين): کو نظر بد لگانا۔ نَفِسَ ـَ نَفَسًا ونَفَاسِيَةً بالشيء: میں بخل کرنا ـــ علی فلان بخير: پر سے حسد کرنا ـــ نَفَاسَةَ الشيءَ علی فلان: کو کا نا اہل سمجھنا ـــ نَفْسًا و نَفَاسَةً و نِفَاسًات المرأۃُ غلاما: عورت کا بچہ جننا۔ نَفُسَ ـُ نَفَاسَةً ونِفاسًا ونُفُوسًا و نَفَسًا: نفیس اور پسندیدہ ہونا۔ نُفِسَ نَفَسًا و نَفَاسَةً ونِفَاسًاتِ المرأۃُ غلاما: عورت کا بچہ جننا ـــ فلانٌ: پیدا ہونا صفت۔ مَنْفُوس: کہا جاتا ہے: ورث فلانٌ هذا قبل ان يُنْفَس: فلاں شخص پیدا ہونے سے پہلے اس کا وارث ہوا۔ نَفَّسَ تَنْفِيسًا ہُ في الأمر: کو کی ترغیب دینا ـــ عنه الكربةَ: کو غم سے دور کرنا، پر تسلی دینا، کہا جاتا ہے: نَفَّسْ فلانًا: اس نے فلاں شخص کو مہلت دی یا اس کے کرب اور غم کو دور کیا۔ نَافَسَ نِفاسًا و مُنَافَسَةً فلانًا في الأمر: میں / پر باہم فخر کرنا، مقابلہ کرنا ـــ في الشيء: میں مبالغہ کرنا، کو بیش قیمت کرنا، کرم میں مقابلہ کے طور پر رغبت کرنا، أنْفَسَ الشيءُ: نفیس ہونا ـــ الشيءُ فلانًا: کو چیز پسند آنا ـــ فلانًا في الشيء: کو میں رغبت دلانا۔ تَنَفَّسَ: سانس لینا ـــ الصبحُ: صبح کا روشن ہونا ـــ تِ القوسُ: کمان کا چٹخنا ـــ النهرُ: نہر کا پانی زیادہ ہونا ـــ النهارُ: دوپہر ہونا ـــ الرجلُ: بات لمبی کرنا ـــ الرجلُ في الأناء: برتن کو منہ سے دور کئے بغیر ایک ہی سانس میں پینا، کہا جاتا ہے: تَنَفَّسَ الصُّعَدَاءَ: تھکن یا غم سے لمبے لمبے سانس لینا۔ تَنَافَسَ القومُ في الأمر: لوگوں کا کسی معاملہ میں مبالغہ کرنا، کرم، میں بطور مقابلہ رغبت کرنا، النَّافِس (فا) حاسد، نظر بد والا، اونچی پسندیدہ شئی، جوئے کا پانچواں یا چوتھا تیر۔ النَفْس (مص) جمع أَنْفُس ونفوس: روح، نظر بد، (کہا جاتا ہے اصابته نَفْسٌ: اسے نظر بد لگی) خون، (کہا جاتا ہے: دفق نَفْسَهُ: اس نے اپنا بہت خون نکالا۔) جسم، بدن، (کہا جاتا ہے هو عظيم النفس: وہ بڑے بدن والا ہے) شخص، عظمت، ہمت، عزت، غرور، تکبر، ارادہ، رائے، عیب، ہزا، پانی۔ نَفْسُ الامر: حقیقت امر۔ نَفْسُ الشيء: وہی چیز، تاکید کیلئے بھی آتا ہے تو کہا جاتا ہے جاء ني هو نفسه وبنفسه: وہ خود میرے پاس آیا۔ نفس مونث ہے اگر مراد روح ہو جیسے خرجت نفسُهُ: اس کی روح (جان) نکل گئی۔ اگر مراد شخص ہو تو مذکر ہے، جیسے عندي خمسة عشر نَفْسًا: میرے پاس پندرہ شخص ہیں، کہا جاتا ہے في نفسي ان أفعلَ كذا: میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، یا میرا ارادہ ہے کہ ایسا کروں۔ فلانٌ يُؤَامِرُ نفسيه و يشاورهما: وہ معاملہ میں متردد ہے۔ اس کی دو رائیں ہیں وہ نہیں جانتا کہ کس رائے پر ثابت قدم ہو، کہا جاتا ہے خرجت نفسُهُ وجاد بنفسه: وہ مرگیا، النَفَس (مص) جمع أنْفَاس: جھونکا، سانس، وسعت، مہلت، (کہا جاتا ہے: اعملوا الخير وانتم في نَفَسَ البقاء: تم کو زندگی میں مہلت نصیب ہو تو اچھے کام کرو)۔ لمبی گفتگو (کہا جاتا ہے: كتب كتابًا نَفَسًا: اس نے طویل (گفتگو والا) خط لکھا) گھونٹ: جیسے: اكرع في الاناء نَفَسًا واحدًا: برتن میں جو کچھ ہے اس کی ایک گھونٹ میں چسکی لگاؤ) ـــ من التنبك: تمباکو کا ایک کش، (کہا جاتا ہے: هذا شراب ذو نَفَس: یہ میٹھی پسندیدہ شراب ہے)۔ نَفَسُ الساعة: زمانہ، نَفَسُ الشاعر او المؤلف: شاعر یا مصنف کا اسلوب تحریر۔ النِفَاس (مص): زچگی، ولادت کے بعد کا خون۔ النُفْسَة: مہلت (کہا جاتا ہے: لك في الامر نُفْسَةٌ: تمہیں اس معاملہ میں مہلت حاصل ہے) النُفَسَاء والنُفَساء والنَفْسَاء جمع نِفاس ونُفُس ونُفَس ونُفَّس ونُفَّاس ونَوافِس و نُفَسَاوات: زچہ، تثنیہ نُفَسَاوان۔ النفوس: حاسد نگاہیں۔ النفيس: بہت مال۔ رجلٌ نفيس: حاسد، شيءٌ نَفِيس: پسندیدہ عمدہ چیز، اس کے مقابلہ میں خسیس آتا ہے۔ مالٌ نفيس: بہت مال۔ الأنْفَس: اسم تفضیل، زیادہ دور یا وسیع۔ زیادہ قیمتی و مہنگا، کہا جاتا ہے: هذا الثوبُ انفسُ من ذاك: یہ کپڑا اس سے زیادہ لمبا یا زیادہ معیاری ہے۔ هذا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المکانُ انفسُ من هذا: یہ جگہ اس جگہ سے زیادہ دور اور وسیع ہے۔ کہا جاتا ہے: هذا انفسُ مالي: یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قیمتی مال ہے۔ هذا انفسُ مالي: یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قیمتی مال ہے۔ المُنفِسُ (فا): ہر وہ چیز جس کی کوئی قیمت اور اہمیت ہو۔ مالٌ مُنفِسٌ: بہت مال۔ مال مُنفَس: بہت مال۔ المَنفُوس: نوزائدہ بچہ۔ شيٌ مَنفُوسٌ نفیس پسندیدہ چیز۔ المتنفَّس: سانس کا راستہ (جگہ)

☾ تَنَفَّسَ الحسرات المولمة: تکلیف دہ آہیں بھرنا۔ تَنَفَّسَ الصعداء: گہرا سانس لینا، آرام کا سانس لینا، دوبارہ سانس لینا۔ تَنَفَّسَ النَفَسَ الاخير: دم واپسین پر ہونا۔ مرنے لگنا۔ تَنَفَّس عن الحياة: آخری سانس لینا، مرجانا، بنفسه: وہ خود، اصالۃً، بذات خود، نحن بنفوسنا: ہم خود، في نفس الامر: درحقیقت، دراصل، فی الواقع۔ في نفس الواقع: درحقیقت، دراصل، فی الواقع۔ عند انفسهم: ان کی اپنی رائے میں۔ جاء هو نفسه (بنفسه): وہ خود میرے پاس آیا، وہ بذات خود مجھے ملنے آیا، جاء من نفسه: وہ اپنی مرضی سے آیا۔ ما وعدت به فيما بيني و بين نفسي: جو کچھ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ نفس الامر: معاملہ کی حقیقت، اصل حقیقت، معاملہ کی نوعیت، نفسُ الشي: وہی چیز الاعتماد على النفس یا الثقة بالنفس: خوداعتمادی، بِشِقِّ النفس یا بِشِقِّ الانفس: بڑی مشکل سے، بمشکل۔ صغيرُ النفس: کمینہ ذہن والا۔ عفيف النفس: بےغرض، بے نفس، جس کو اپنا فائدہ مقصود نہ ہو، ایثار آمیز۔

علم النفس: نفسیات، علم النفس۔ كبير النفس: عالی منش، عالی ظرف، محبة النفس: خودغرضی، مطلب پرستی۔ بَذْلَ النفسَ و النفيسَ: سب کچھ قربان کرنا۔ التحليل النفسي: تحلیلی نفسیات۔ حالة نفسية: ذہن کی حالت، موڈ (Mood) حتى النَفَسِ الاخير: آخری سانس تک۔ ضيقُ النفس: دمہ۔ هو في نفس من امورہ: وہ اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے۔ انت في نفسٍ من امرك: جو آپ کو اچھا لگے کر سکتے ہیں۔ امسك انفاسه: سانس روکنا فاضت انفاسُهُ: مرجانا۔ طب نفساني: نفسیاتی امراض کا علاج Psychiatry عالم نفساني: ماہر نفسیات۔ نَفسانيَة: نفسیات (psychology) حُمَّى النِفَاس یا حُمَّى نِفاسيه: زچگی کا بخار، مُنَفَّس جمع مَنافِس: سانس لینے کا سوراخ، ہوا کا سوراخ، والو (Valve)

تنفيس: ہوا کے آنے جانے کا انتظام۔ ہوادار بنانا۔ تَنَفُّس: سانس، سانس لینا، مُنَافَسَة جمع مُنافسات: ریس، ہمسری کی کوشش، مقابلہ، رقابت، مدمقابل ہونا، میچ (Match) مبارزت، مسابقت۔ تَنافُسٌ على: کیلئے جنگ، جدوجہد، تَنافُس حَيَوِی: جهد للبقاء، جہد حیات۔ تنازع للبقاء Struggle for existence۔ مُتَنَفَّس: آزادی سے سانس لینے کی جگہ، سانس لینے کی جگہ، (کیلئے) کھلا امکان یا موقع، آزاد ماحول، امداد، اعانت، بچنے کا ذریعہ، نجات۔ چھٹکارا، نکلنے کا راستہ

نقش: ا۔ نَقَشَ ـُ نَقْشًا و نَقَّشَ القطنَ او الصوفَ: روئی یا اون دھنا۔ عوام کہتے ہیں: نفش فلانٌ فلانًا: فلاں نے فلاں کی تعریف کی تو وہ خود پسند اور مغرور ہوگیا۔ ـــ ـِ و نَفِشَ ـَ نَفْشًا تِ الابلُ او الغنمُ: رات کو اونٹوں اور بکریوں کا چرواہے کے بغیر چرنا۔ صفت نافِشَة و نُفّاش و نَوَافِش و نُفَّش: ۔ اسم النَفَش۔ أَنْفَشَ الراعِي الابلَ: چرواہے کا رات کے وقت اونٹوں کو چرنے کیلئے چھوڑ دینا۔ تَنَفَّشَ الطائرُ: پرندہ کا پروں کو جھاڑنا۔ ـــ ت الهِرَّةُ: بلی کا بال کھڑے کرنا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا رات کے وقت چرواہے کے بغیر چرنا۔ إنْتَفَشَ ت الهرةُ: بلی کا بال کھڑے کرنا۔ ـــ الصوفُ: اون کا دھنا جانا۔ النَفَش: دھنی ہوئی اون، متفرق سامان، کلام دعوں کی کثرت۔ ابلٌ او غنم نَفَشٌ: رات کے وقت چرواہے کے بغیر چرنے والے اونٹ یا بکریاں۔ النَفَش صرف رات کو ہوتا ہے جبکہ الهمل رات اور دن دونوں وقت ہوتا ہے کہا جاتا ہے: بَقَرٌ او غَنَمٌ نَفَشٌ و نَوَافِش و نُفَّاش: رات کے وقت چرواہے کے بغیر چرنے والی گائیں یا بکریاں۔ النَفَّاش: متکبر، مغرور، پھولا ہوا۔ (ن) کا ایک قسم کا بڑا لیموں۔ النَفِيش: برتن کی متفرق چیزیں۔ المُتَنَفِّش و المُنتَفِش: پھولا ہوا، نرم، کہا جاتا ہے: أَنْفٌ مُتَنَفِّش و مُنتَفِش: چپٹی ناک۔

۲۔ نَفَشَ ـُ نُفُوشًا القومُ: قوم کا ارزانی میں ہونا، کہا جاتا ہے: بلدٌ ذو نَفَشٍ: زرخیز ملک۔

۳۔ نَفَشَ ـُ نُفُوشًا فلانٌ على الشي: کو کھانے کے لئے رخ کرنا۔

☾ نَفَشَ نُفَّشًا [illegible] اور [illegible] ابھرنا، آگے نکل جانا، پھیلنا، سوجنا، سوجا ہوا ہونا، چڑیا کا اپنے پر بے ترتیب کرنا۔ نَفَّشَ ه: روئی کو توبنا، تومنا، دھنا۔ تَنَفَّشَ و اِنْتَفَشَ: مغرور ہونا، ہوا یا گیس بھرا ہونا، پروں کو بے ترتیب کرنا، روئیں کھڑے کرنا۔ نَفَش: اون، نَفّاشٌ: بڑے لیموں کی ایک قسم۔ منفوش: مغرور، پھولا ہوا، بے ترتیب، رونگٹے کھڑے کئے ہوئے، پریشان (بال)، ملائم، روئیں دار (بال اون)

نفص: ا۔ نَفَصَ ـِ نَفْصًا ببوله: پیشاب کرنا۔ ـــ بالكلمة: کو جلدی بولنا۔ أَنْفَصَ ببوله: پیشاب کرنا ـــ بالكلمةُ: جلدی بولنا۔ ـــ ت الشاةُ ببولها: بکری کا تھوڑا تھوڑا کر کے پیشاب کرنا۔ ـــ في الضحك: بہت ہنسنا۔ النُفْصَة جمع نُفَص: خون کا فوارہ۔ النُفَاص: بکریوں میں پیشاب کی بیماری۔ المِنفاص: بہت ہنسنے والا۔

۲۔ أَنفَصَ الرجُلُ بشفتيه: ہونٹوں سے اشارہ کرنا۔

۳۔ النَفِيص: میٹھا پانی۔

نفض: ا۔ نَفَضَ ـُ نَفْضًا الثوبَ: کپڑا جھاڑنا۔ ـــ الشجرةَ: پتے یا پھل گرانے کیلئے درخت کو ہلانا۔ ـــ الورقَ من الشجر: درخت سے پتے گرانا۔ ـــ الزرعُ: کھیتی کا آخری خوشہ نکالنا۔ ـــ الكرمُ: انگور کی بیل میں خوشے نکلنا۔ ـــ ت الابلُ: سب اونٹنیوں کا بچے جننا۔ ـــ ت المرأةُ: عورت کا بہت اولاد والی ہونا۔ ـــ ت الحُمّىَ: کو بخار چڑھنا، کو بخار کا کپکپا دینا۔ ـــ القومُ حلائبهم: لوگوں کا اپنے دودھ دینے والے جانوروں کا سب دودھ نکال لینا۔ ـــ القومُ: توشہ یا مال سے خالی ہوجانا۔ ـــ الثوبُ او الصبغُ: کپڑے یا رنگ کا ماند پڑنا۔ ـــ نُفُوضًا المريضُ من مرضه: بیمار کا بیماری سے شفایاب ہونا۔ نَفَّضَ الثوبَ او الشجرةَ: کپڑا یا درخت جھاڑنا۔ أَنْفَضَ فلانًا عنه: کو اپنے سے دور کرنا، سے دوستی ترک کرنا۔ ـــ القومُ زادَهم: قوم کا توشہ کو ختم کر ڈالنا۔ ـــ القومُ: قوم کا ختم شدہ یا تباہ شدہ توشہ یا مال والا ہونا۔ ـــ ت الابلُ: سب اونٹنیوں کا بچے جننا۔ إنْتَفَضَ الكرمُ: انگوروں کی بیل کا سرسبز ہونا۔ ـــ الثوبُ او الشجرُ: کپڑے یا درخت کا جھاڑا جانا۔ ـــ الفصيلُ مافي الضرع: اونٹ کے بچے کا تھن کا سارا دودھ چوس لینا۔ اِسْتَنْفَضَ الشيَ: چیز کو نکالنا۔ النافِض (فا): لرزہ کا بخار، (کہا جاتا ہے: اخذته حُمّى نافِضٌ و حُمَّى نافِضٍ و حُمَّى بنافض: اسے لرزہ کا بخار چڑھ گیا) ثوبٌ نافض: وہ کپڑا جس

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کا کچھ رنگ ماند پڑ گیا ہو۔ النُّفُض: گرے ہوئے
پتے یا کھجور۔ النَّفَض: جھاڑنے سے گری ہوئی چیز۔
النَّفَض جمع نُفُضٌ: گرے ہوئے پتے اور کھجوریں۔
النُّفْضَة: کہیں کہیں پڑنے والی بارش۔ ــــ و
والنُّفَضا والنُّفَاض والنُّفَضَاء: بخار کا لرزہ۔
النُّفَاض جمع نُفُضٌ: انفض القومُ زادھم سے
اسم۔ ــ والنِّفاض جمع نُفُضٌ: جھاڑے ہوئے سے
گری ہوئی چیز۔ النُّفَاضة جمع نُفَض: باقی ماندہ توشہ
جو جھاڑا جائے، جھاڑے ہوئے سے گری ہوئی چیز۔
النُّفَضَى والنِّفِضىّ والنِّقِّيضَى: حرکت، کپکپی،
لرزہ۔ النَّفُوض من النساء: بہت اولاد والی
عورت۔ النَّفَائِض: دبلے اونٹ۔ الإنْفَاض
(مص): بھوک، حاجت۔ الأَنَافِيض مفرد
أُنْفُوضَه: درخت کی جڑوں میں گرے ہوئے پھل۔
المِنْفَض: چھاج۔ ــ والمِنْفَاض: چادر وغیرہ جس
پر پتے یا پھل جھاڑے جائیں۔ المِنْفَضَة عند
شرّاب التبغ: خاکستردان (پروں کا جھاڑن، گرد
کش (Vacuum cleaner)۔ المُنْفِض من
الدجاج: انڈوں سے رک جانے والی مرغی۔ المَنْفُوض
(مفع): لرزہ والے تپ میں مبتلا۔

۲۔ نَفَضَ ـُ نُفُضًا المكانَ: جگہ کی اچھی طرح واقفیت
کرنا۔ الطريقَ: راستے کا کھوج لگانا، راستہ کو چوروں
سے پاک کرنا۔ ــ فلانٌ: چاروں طرف دیکھنا، کہا جاتا
ہے: اذا تکلَّمتَ نهارا فانْفُضْ: جب تو دن کو
باتیں کرے تو دیکھ لے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جسے تو
ناپسند کرتا ہو۔ تَنَفَّضَ المكانَ: جگہ کو اچھی طرح
دیکھنا تا کہ پہچان سکے۔ إسْتَنْفَضَ المكانَ: جگہ کو
اچھی طرح دیکھنا تا کہ پہچان سکے۔ ــ القومَ: لوگوں کو
توجہ سے دیکھنا۔ ــــ الامیرُ: امیر کا جاسوس بھیجنا۔
النَّفَضَة: جاسوسوں کی جماعت۔ النَّفِيضَة جمع
نَفَائِض: جاسوسوں کی جماعت۔ النَّفَائِض: کنکروں
کے ساتھ غیب کی باتیں بتانے والے۔

۳۔ النِّفَاض جمع نُفُض: بچوں کا تہبند، کہا جاتا ہے:
ماعليه نِفاض: اس کے تن پر کپڑے کی قسم کی کوئی چیز
نہیں۔

○ نَفَضَ ـُ نَفْضًا ہ کو ہلانا۔ ــ ہ عن: سے کچھ ہلا کر
گرانا۔ ـــ ہ کو جھاڑنا۔ ـــ ہ: سگرٹ سے راکھ
جھاڑنا۔ ــ ہ: بخار کا کسی پر لرزہ یا کپکپی طاری کرنا۔ ــ
ـــ نُفُوضًا من: سے شفایاب ہونا۔ نفض عنه
الكسلَ او نفض غبارَ كسلِهِ: سستی یا کاہلی
جھٹکنا، نفض غبارہ: گرد جھاڑنا کی انتہا کو پہنچنا،
نفض عنه الهم: غموں کو اپنے سے دور کرنا، پریشانی
جھاڑ دینا۔ نفض في لعب الاوراق: تاش سے جوا
کھیلنا، نفض يده من الامر: سے خلاصی پانا، کو ترک
کر دینا، پر لات مارنا، سے تعلق سے انکار کرنا، نفض
يده من يد فلان: سے میل جول نہ رکھنا، دور رہنا،
مراسم نہ رکھنا۔ نَفَّضَ ہ کو زور سے ہلانا، جھاڑنا۔ گرد
جھٹکنا۔ أَنْفَضَ ہ مکمل طور پر خرچ کر ڈالنا۔ ــ تمام
ذرائع سے محروم ہو جانا، مفلس ہو جانا، کنگال ہو جانا۔
ــ ہ عن: کو سے ہٹانا، برخاست کرنا۔ إنتفض: ہلنا،
جھاڑا جانا، کانپنا، رونگٹے کھڑے ہونا، ـــ من: سے
کانپنا، لرزنا، تھرانا۔ إنتفض واقفًا: چونک اٹھنا،
خوف سے اچھل پڑنا، اچھل کر پاؤں پر کھڑا ہو جانا۔
نَفَض: جو چیز ہلا کر گرائی جائے یا گرے۔ غابة
نفضية: پت جھڑ اجنگل، گھنا جنگل۔ نَفَضَة: جاسوسی
یا دیکھ بھال کا گروہ دیکھ بھال کی گشت، نُفَاضَة: ہلا کر
گرائی جانے یا گرنے والی چیز۔ نَفِيضَة بمعنی
نَفَضَة، مِنْفَض: چھلنی، إنتفاض: ہلنا، کانپنا، لرزنا،
کپکپانا، تھرانا، کپکپی، لرزہ، رعشہ۔ إنْتِفَاضَة: کپکپی،
لرزہ، رعشہ، بیداری، اٹھنا، جاگنا، بغاوت۔

نفط: ا۔ نَفَطَ ـِ نَفْطًا: غضبناک ہونا، غصہ سے آگ بگولا
ہونا۔ ــ نَفْطًا و نَفِيطًا العنزةُ: بکری کا چھینکنا۔ ــ
ت القِدرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ ــــ الظبيُ: ہرن کا
آواز نکالنا ــ الرجلُ: غیر مفہوم کلام کرنا۔ تَنَفَّطَ:
غضبناک ہونا، غصہ سے آگ بگولا ہونا۔ تَنَافَطَت
القِدرُ: ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔ النَّافِطة: بکری۔
رغوة نافطة: بلبلوں والی جھاگ۔ النِّفْط: واحد
نُفْطَة: رگڑ سے آگ پکڑنے والے مادہ کی تیلیاں۔
عام لوگ اسے شُخَيْطَة یا كبريته کہتے ہیں (یعنی
ماچس کی تلی) ـــ والنِّفْط (ك): بہت جلد آگ
پکڑنے والا معدنی تیل۔ النُّفَطَة: جلد غضبناک
ہونے والا۔ النِّفَاط جمع نَفَّاطَة و نَفَّاطون: کان
سے نفط نکالنے والا، نفط پھینکنے والا۔ النَّفَّاطَة و
النَّفَّاطَة: نفط کی کان، پٹرول کا کنواں، ایک قسم کا
چراغ، تانبے کا آلہ جس سے آگ اور نفط پھینکا کرتے
تھے، کہا جاتا ہے۔ خرج النفّاطون با يديهم
النفّاطات: نفط پھینکنے والے نکلے ان کے ہاتھوں میں
آگ اور نفط پھینکنے کے آلے تھے۔ النِّفَاطان: غصہ و
غضب کے وقت کھانسی اور غرور کی مانند۔

۲۔ نَفِطَ ـَ نَفْطًا و نَفَطًا و نَفِيطًا يدُه: ہاتھ کا آبلہ دار
ہونا۔ تَنَفَّطَت اليدُ: ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔ يدٌ
نافِطَة: آبلہ والا ہاتھ۔ النَّفْط: چیچک، ہاتھ کا آبلہ۔
النَّفْطَة و النِّفْطَة و النَّفِطَة: ہاتھ کا آبلہ، چیچک۔
النَّفّاطَة: آبلہ۔ النَّفِيط و المَنْفُوط م نَفِيطَة
و مَنْفُوطَة ہاتھوں میں آبلوں والا۔

○ نَفط: پٹرولیم، نَفْطِي: پٹرولیم والا، پٹرولیم میں بھیگا
ہوا تر کیا ہوا، تیل کا، پٹرولیم کا، مِصْباحٌ نَفْطِي: تیل
کا لیمپ۔ نَفْطَة: آبلہ، چھالا۔ نُفْطَة: زود غضب،
زود حس، گرم مزاج، مُنَفِّط: آبلے ڈالنے والا۔

نفع: ا۔ نَفَعَ ـَ نَفْعًا ہ بکذا: کو کا فائدہ دینا۔ تَنَفَّعَ
الرجلُ: لاٹھیوں کی تجارت کرنا۔ إنتفع به و منه:
سے فائدہ اٹھانا۔ إسْتَنْفَعَ ہ: سے فائدہ طلب کرنا۔
النَّافِع (فا): اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک اسم
جو اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔
النَّافِعَة: وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے کہا جاتا
ہے: مانفعنی فلانٌ بنافِعَةٍ: فلاں شخص نے مجھے کسی
فائدہ اٹھانے والی چیز سے فائدہ نہیں دیا۔ النَّفْع:
فائدہ نفع۔ النَّفْعِيّ: نفع اندوز۔ ناجائز نفع حاصل
کرنے والا۔ النَّفْعِيَّة: نفع اندوزی۔ النَّفْعَة جمع
نَفَعات: ایک بار کا فائدہ، ایک قسم کا عصا، جس کو زمین
پر فائدہ کیلئے مارتے ہیں۔ النِّفْعَة جمع نِفَع و نِفَع: نفع
کی قسم۔ النَّفَاع و النَّفِيعَة: فائدہ، منفعت، کہا جاتا
ہے: هو حاضرُ النفيعة: وہ تیز نفع اور منفعت والا
ہے۔ النُّفَاعَة: ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے۔
النَّفّاع: بہت فائدہ دینے والا۔ النَّفُوع جمع نُفُع:
بہت فائدہ دینے والا المَنْفَعَة جمع مَنَافِع: ہر وہ چیز
جس سے فائدہ اٹھایا جائے، فائدہ، مَنَافِعُ الدار: گھر
میں آرام کی چیزیں، جیسے کنواں، غسل خانہ وغیرہ۔

۲۔ النِّفْعَة جمع نِفَع و نِفَع: چمڑے کا تسمہ جو توشہ دان کے
پہلوؤں پر لگا ہوتا ہے۔

○ نَفَعَ ـَ نَفْعًا ہ: کیلئے مفید، کارآمد، سود مند یا منفعت
بخش ہونا، کی مدد کرنا، کو فائدہ، مدد یا کام دینا۔ ــ ل:
کے لئے قابل استعمال ہونا، کے گھر کا انتظام چلانا، کی
جانب سے خدمت سرانجام دینا۔ لاینفع: بے کار،
فضول، ناکارہ۔ نَفَّعَ ہ کو برتنا، استعمال میں لانا، کو
استعمال کرنا، کا مصرف ڈھونڈنا۔ إنتفع ب / من: کو
استعمال کرنا، کو استعمال میں لانا، سے فائدہ اٹھانا، سے
اچھا فائدہ اٹھانا، سے استفادہ کرنا، کا لطف اٹھانا، سے
لطف اندوز ہونا۔ إسْتَنْفَعَ ہ بمعنی نَفَّعَ ہ نَفْعِي:
اپنے فائدہ کیلئے پوری طرح سے لگا ہوا، خود غرض،
مطلب پرست، مطلبی، نفع اندوز، نفّاع: بہت کارآمد،
بہت مفید۔ نَفُوع جمع نُفُع: بہت مفید، بہت کارآمد۔
مَنْفَعَة جمع مَنَافِع: فائدہ، نفع، مدد، کام، استعمال،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سودمند یا منفعت بخش استعمال، کارآمد خدمت، کسی قابل استعمال چیز کی پیداوار یا حق کی پیداوار، زرعی پیداوار، عوامی ادارہ، محکمہ، عوامی خدمت کی سہولت، منافع عامة (عمومیہ) عوامی خدمت کی سہولتیں، آسانیاں، عوامی استعمال کے لئے دستیاب جائیداد، منافع صِحیّة: صحت اور صفائی سے متعلق سہولتیں۔ نَافِعَة: تعمیرات عامہ، وزیر النافعة: وزیر تعمیرات عامہ (minister of public works)
منتفع: فائدہ اٹھانے والا، حق استعمال و استفادہ بلا ملکیت والا۔ نَافِع: مفید، کارآمد، سودمند، فائدہ مند، انتفاعی، بہتر، نفع رساں، نافع، قابل استعمال، دیرپا، صحت بخش، خوشگوار۔

نفغ: نَفَغَ ـَ نَفْغًا ونُفوغًا و نَفِغَ ـَ نَفَغًا و تَنَفَّغَ ت یدہٗ ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔

نفق ۱۔ نَفَقَ ـُ نَفَاقًا الشي: ختم ہونا، فنا ہونا، کم ہونا۔ البیعُ: بیع کا رائج ہونا۔ ـــ ت السوقُ: گرم بازاری ہونا۔ ـــ ـُ نُفُوقًا الرجلُ او الدابّةُ: مرد یا جانور کا مرنا، کی جان نکلنا۔ ـ الجرحُ: زخم کا چھلنا۔ نَفِقَ ـَ نَفَقًا الشيئُ: ختم ہونا، فنا ہونا، کم ہونا۔ نَفَّقَ البضاعة: سامان (تجارت) کو رواج دینا۔ أنفقَ: محتاج ہونا، کا توشہ ختم ہونا۔ ـــ المالَ: مال صرف کرنا، خرچ کر ڈالنا۔ ـــ السلعةَ: سامان (تجارت) کو رواج دینا۔ ـــ القومُ: قوم کی تجارت کا خوب چلنا۔ ـــ الرجلُ: اپنے سامان کی گرم بازاری پانا۔ اپنے سامان کو بکنے کے قابل پانا۔ إستنفقَ المالَ: مال ختم کر دینا۔ النافِق فا ـ مـ البضائع: بکنے کے قابل سامان۔ گرم بازاری والا سامان النافِقَة: نافق کا مونث۔ النَفِق: جلد منقطع ہونے والا، کہا جاتا ہے: فرسٌ نَفِقُ الجری: تھوڑا سا چل کر رک جانے والا گھوڑا۔ النفقة جمع نَفَقات ونِفاق وانفاق: انفاق کا اسم۔ خرچ۔ المِنفاق: بہت خرچ کرنے والا۔ المَنفَقَة: تجارت کی گرم بازاری کا وقت یا جگہ۔ الیمینُ الکاذبة مَنفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَةٌ للبرکة: جھوٹی قسم سے سامان تجارت تو خوب بکتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے۔

۲۔ نَفَقَ ـُ ونَفِقَ ـَ نَفَقًا الیربوع: جنگلی چوہے کا اپنے بل سے نکلنا۔ بل میں داخل ہونا (ضد) نَفَّقَ الیربوعُ: جنگلی چوہے کا اپنے بل سے نکلنا، بل میں داخل ہونا (ضد)۔ نَافَقَ مُنافَقَةً و نِفاقًا الیربوعُ: جنگلی چوہے کا بل میں داخل ہونا۔ ـــ فی دینه: دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنا۔ صفت مُنافِق۔ تَنَفَّقَ الیربوعَ: جنگلی چوہے کو اس کے بل سے نکالنا۔ ـــ الیربوعُ: جنگلی چوہے کا بل سے نکلنا، بل میں داخل ہونا (ضد)۔ إنتفقَ الرجلُ: سرنگ میں داخل ہونا۔ ـ الیربوعُ: جنگلی چوہے کا بل میں داخل ہونا، بل سے نکلنا۔ (ضد) ـ الیربوعَ: جنگلی چوہے کو بل سے نکالنا۔ النافِقة: مشک کا نافہ۔ النَافِقاء جمع نَوافِق و النُفَقَة والنُفقاء: جنگلی چوہے کا ایک بل جسے وہ چھپائے اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ النَفَق جمع أنفاق: سرنگ۔ نفق السکة الحدیدیة: ریل کی سرنگ۔ النِفَاق (مص): منافقت۔ المُنافِق: دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنے والا۔ المنافقة (مص): نفاق، منافقت۔

۳۔ نَیفَقُ السروال: پانجامہ کا نیفہ۔

○ نَفَقَ ـُ نَفاقًا: (سامان تجارت کا) خوب بکنا، منڈی تیار پانا، تجارت کا بازار گرم ہونا، سرگرم ہونا۔ نَفَقَ و نَفِقَ ـَ نَفَقًا: صرف ہو جانا، خرچ ہو جانا (ذخیرہ، اشیائے خوردنی اور روپیہ کا) ختم ہو جانا، کم پڑ جانا۔ نفق ـُ نُفُوقًا: مر جانا۔ نَفَّقَ: (سامان تجارت کا) بکنا۔ نَافَقَ: منافقت کرنا، نیت کو پوشیدہ رکھنا، دلی جذبات چھپانا، مکاری کرنا، ریا کاری سے کام لینا۔ نَافَقَ ضمیرہ: ضمیر کی ہدایات کے برعکس کرنا۔ أنفقَ ہ علی: کو کیلئے خرچ کرنا۔ ـ ہ کو خرچ کر ڈالنا، ختم کر ڈالنا، ضائع کرنا، گنوانا، اڑانا، برباد کرنا، وقت گزارنا، خرچ کرنا۔ ـــ علی: کے گھر کا خرچ چلانا، کی کفالت کرنا، کا کفیل ہونا، کا سہارا ہونا، کے اخراجات برداشت کرنا۔ تَنَفَّقَ بِکِذْبَةٍ علی: سے جھوٹ بولنا، إستنفقَ ہ علی: (روپیہ) کے لئے خرچ کرنا، ضائع کرنا۔ نَفَقَة جمع نَفَقات و نِفاق: خرچ، صرفہ، قیمت، دام، مول (پر) لگا ہوا سرمایہ (پر) کیا ہوا خرچ، رقم، صرف، خرچ کی ادائیگی، روپیہ کی ادائیگی، گزارے کا خرچ، نان نفقہ، روٹی کپڑا، پالنا، بیوی کی کافی کفالت، مخیر انہ تحفہ۔ علی نفقته: کے خرچ پر۔ قلیلُ النفقات: سستا، نَفاق: تجارت کی گرم بازاری، اچھا کاروبار، سامان کا بکنا، مِنفاق: مال ضائع کرنے والا، فضول خرچ، عیاش، اوباش لفنگا، نافِق: خوب بکنے والا، قابل فروخت سامان تجارت، سامان تجارت جس کی مانگ ہو۔

نفل ۱۔ نَفَلَ ـُ نَفْلاً الرجلَ: کو عطیہ دینا۔ ـ ہٗ النفلَ: کو زائد عطیہ دینا۔ ـــ القائدُ الجندَ: سپہ سالار کا فوجیوں میں مال غنیمت بانٹنا۔ نفّلہٗ: کو اس کے حصہ [illegible] النفلَ: کو زائد عطیہ دینا۔ تَنَفَّلَ: نوافل پڑھنا۔ ـ علی اصحابه: مال غنیمت ساتھیوں سے زیادہ لینا۔ ـــ منه الشیئَ: کو سے طلب کرنا، إنتفلَ: نوافل پڑھنا۔ ـــ الشیئَ من فلان: کو سے طلب کرنا، النافِلة جمع نَوافِل: جو نہ فرض ہے نہ واجب۔ پوتا، غنیمت، عطیہ، بخشش، کہا جاتا ہے: هو کثیرُ النوافِل: وہ بہت عطیے دینے والا ہے۔ النَفْل: واجبات اور فرائض سے زائد کام، ایسا کام جو نہ تو فرض ہے نہ واجب۔ النَفَل جمع نِفال و أنفال: (مال) غنیمت، ہبہ، زیادتی، بخشش۔ کہا جاتا ہے: لهذا نفل علی ذاك: یہ اس پر زائد ہے۔ ـــ واحد نَفَلَة (ن): ایک قسم کا خوشبودار گھاس۔ النُفَل: قمری مہینہ کی تین راتیں (چوتھی، پانچویں اور چھٹی) النوفل جمع نَوفَلون: بہت فیاض، عطیہ، سمندر۔

۲۔ نَفَلَ ـُ نَفْلاً: قسم کا کھانا۔ ـــ الرجلَ عن نسبه: کو نسبت سے خارج کرنا۔ کہا جاتا ہے: أنفُل عن نفسك ان کنت صادقًا: اگر تم سچے ہو تو تمہارے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں ان کی نفی کرو۔ نَفَّلَہٗ: کو قسم کھلانا۔ ـــ عن فلان: سے ہٹانا۔ أنفَلَ له: قسم کھانا۔ إنتفَلَ: قسم کھانا، معذرت کرنا۔ ـ من الامر او الکلام: سے بری ہونا، کہا جاتا ہے: قال لی قولاً فانتفلتُ منه: اس نے مجھ ایک بات کہی تو میں نے اس کا انکار کیا اور اس سے بریت کی۔ ـــ من القوم: قوم کی مدد کرنے سے دور رہنا۔

۳۔ النَوفَل جمع نَوفَلون: خوبصورت نوجوان۔ (ح): نر بجو۔ النوفلة: نمک دانی

○ تَنَفَّلَ و انتَفَلَ: فرض یا واجب سے زیادہ کام کرنا، نوافل ادا کرنا، سخاوت کرنا، خیرات کرنا۔ نَفْل: فرض منصبی سے زیادہ کام، خصوصاً نوافل۔ نَفَل جمع أنفال ونُفول ونِفال: مال غنیمت، چوری کا مال، لوٹ کھسوٹ، تحفہ، من نافلة القول أن: یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ...... یہ کہنا تحصیل حاصل ہے کہ۔

نفه: نَفَهَ ـَ نُفُوهًا الرجلُ: کمزور دل ہونا، بزدل ہونا۔ ـــ الجملُ: اونٹ کا بالآخر رام ہو جانا۔ نَفِهَ ـَ نَفَهًا نفسُهُ: تھکنا۔ نَفَّهَ و أنفَهَ الناقة: اونٹنی کو تھکا ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: أنفه لهٗ من مالِهِ: اس نے اس کو تھوڑا مال دیا إستنفَهَ الرجلُ: آرام لینا۔ النافِه جمع نُفَّه: تھکا ہوا۔ ـــ والمَنفُوہ: کمزور دل، بزدل۔ جملٌ مُنَفَّهٌ: تھکا ہوا اونٹ۔

نفو: نَفا یَنفُو نَفوًا ہ: کو ہٹانا۔ نُفاوة الشیئ: ردی چیز، باقی چیز۔ النُفوة: شہر بدری۔ نُفوة الشي: ردی چیز

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

باقی چیز۔

نفی: نَفَی یَنْفِي نَفْیًا عنه: سے باز رہنا، ہٹنا۔ ـ ہُ عنه: کو سے ہٹانا، دور کرنا۔ ـــ الشعَرُ: بال گرنا۔ ـ ہُ: کو نکال باہر کرنا۔ ـــ الرجُلَ: کو قید خانہ میں قید کرنا۔ ـــ الرجُلَ من بلده: کو شہر بدر کرنا۔ ـــ السیلُ الغُثَاءَ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ بہالیجانا۔ ـــ الشیَٔ: کا انکار کرنا۔ ـــ تِ السحابَۃُ ماءَ ھا: بادل کا پانی برسانا۔ ـــ نَفْیًا و نَفَیَانًا الصیرفیّ الدراھمَ: صراف کا روپے پرکھنے کے لئے ان کو بکھیرنا۔ ـــ تِ الریحُ الترابَ: ہوا کا مٹی اڑالیجانا۔ نَفَّی ہُ: کا زور سے انکار کرنا۔ نَافَی مُنَافَاۃً ہُ کا تعاقب کرنا، کہا جاتا ہے: ھذا یُنَافِي ذاك: یہ اس کی تردید کرتا ہے، یہ اس کے الٹ ہے یا برعکس ہے۔ تَنَافَی تَنَافِیًا الرجالُ: ایک دوسرے کو دفع کرنا، ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔ ـــ تِ الاشیاءُ: ایک دوسرے سے مختلف ہونا، مخالف ہونا۔ اِنْتَفَی: دور ہونا، نکالا جانا۔ دھتکارا جانا ـ عنه: سے ہٹ جانا۔ ـ الشَعَرُ: بالوں کا گرنا۔ ـ الشیُٔ: ناپائیدار ہونا، قائم نہ رہنا۔ ـ مِن وَلَدِہ: بچہ کا اپنا ہونے سے انکار کرنا۔ ـــ فلانٌ من فلانٍ: سے کراہیت کے ساتھ اعراض کرنا۔ النَافِي (فا): دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا۔ نَفَاءُ الشیٔ و نَفَاتُہُ و نِفْیَتُہُ و نُفَایَتُہُ و نَفَایَتُہُ: ردی چیز، چیز کا بقیہ۔ النَفْیَۃ جمع نَفَیَات: نفی کا اسم مرۃ۔ کھجور کے پتوں کا دسترخوان جس پر گوشت یا پنیر وغیرہ خشک کیا جائے۔ نُفْیَۃُ الشیٔ: ردی چیز، چیز کا بقیہ۔ النَفَیان (مص): درختوں کی جڑوں میں ہوا سے جمع ہونے والی مٹی، گرے ہوئے پتے۔ منتخب فوج النَفِيّ: منتخب فوج نابود کیا ہوا، ہانڈی سے ابلتے وقت پھینکا ہوا پانی چکی کا پھینکا ہوا آٹا، کھجور کے پتوں سے بنائی ہوئی ڈھال، گھوڑوں کے سموں سے بکھری ہوئی مٹی پتھر وغیرہ، درختوں کی جڑوں میں ہوا کی جمع کی ہوئی مٹی، کہا جاتا ہے: ھذا ابنٌ نَفِيٌّ: یہ وہ لڑکا ہے جس کا بیٹے ہونے سے باپ نے انکار کردیا۔ نَفِيُّ الشيء: ردی چیز، چیز کا بقیہ۔ النَفِیَّۃ: نفی کا مونث۔ کھجور کے پتوں کا دسترخوان جس پر گوشت یا پنیر سکھایا جاتا ہے۔ المَنْفَی جمع مَنَافٍ: جلاوطن کی جگہ۔ المَنْفِيّ: دور کیا ہوا، ہٹایا ہوا، معدوم، دھتکارا ہوا، جلا وطن کیا ہوا۔ المَنْفِي في الکلام: تردید کیا ہوا، نفی کیا ہوا۔

☆ نَفَا ـــ نُفُوًّا و نَفَی ـ نَفْیًا ہ من / عن: کو سے نکالنا، بے دخل کرنا، محروم کرنا، جلا وطن کرنا، خارج کرنا۔ ـــ ہ: کو ہٹانا، بے دخل کرنا، شہر بدر کرنا، دیس نکالا دینا، جلاوطن کرنا، ملک بدر کرنا۔ ـــ ہ: کی تردید کرنا، کو غلط ثابت کرنا، کی تغلیط کرنا، کے خلاف دلائل دینا، سے قطع تعلق کرنا، کو اپنانے سے انکار کردینا، کی تکذیب کرنا، کو رد کرنا، کو تسلیم نہ کرنا، کی صحت قبول کرنے سے انکار کردینا، کا تعین نہ کرنا، کو باور نہ کرنا، کو نامنظور کرنا، مسترد کرنا، کو دل سے نکال دینا، ترک کر دینا، کو (بے کار سمجھ کر) پھینک دینا، سے بے تعلقی بالاعلمی ظاہر کرنا، سے انکار کرنا، (کسی شے کے علم کا) انکار کرنا، کو نا ماننا، کو قبول نہ کرنا، کی اجازت نہ دینا، (کو لینے سے) انکار کرنا، کو خارج کرنا۔ ـــ: نفی کرنا (گرامر) نَافَی ہُ: کا تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، ـ ہ: کو خارج کرنا، کی تردید کرنا، کے برعکس ہونا، کے خلاف ہونا، سے متضاد، کے خلاف، ناموافق، سے بے جوڑ، مخالف، غیر مطابق یا بے ربط ہونا۔ تَنَافَی: باہم کم آمیز یا متضاد ہونا یا برعکس یا الٹ ہونا، متضاد، عکس یا الٹ ہونا۔ اِنْتَفَی: جلاوطن ہونا، نکالا جانا، تردید کیا جانا، غلط ثابت ہونا، زیر بحث لایا جانا، انکار کیا جانا، گرنا، گرایا جانا، کم ہونا، ترک کیا جانا، نہ کیا جانا، چھوڑا جانا، غیر موجود ہونا، موجود نہ ہونا۔ اِسْتَنْفَی ہ: کو بے کار، ناکارہ، فضول، ناقابل قبول سمجھ کر مسترد کرنا، شاھد نفي: صفائی کا گواہ (بمقابلہ شاھدُ إثبات: استغاثہ کا گواہ)۔ نَفِي: انکار کیا ہوا، مسترد کیا ہوا۔ نَفَاء و نَفَاۃ و نَفَاوَۃ: بے کار، ناکارہ یا فضول سمجھ کر مسترد کی ہوئی چیز، فضلہ، ردی، سکریپ، آخور، بیکار گوشت، (جیسے چھیچھڑے اوجھڑی وغیرہ) کوڑا کرکٹ، آلائش، گلی سڑی چیزیں۔ نَفَایات: بول و براز، گوبر۔ نَفَایَۃ جمع نَفَایات: بمعنی نفاء و نَفَاۃ و نَفَاوۃ: نیز، بقیہ، باقی ماندہ، بچا کھچا، بے کار سمجھ کر پھینکی ہوئی چیز۔ مَنْفًی جمع مَنَاف: جلاوطنی کی جگہ، جلاوطنی۔ مُنَافَاۃ: تردید، تضاد، عکس، تباین۔ تَنَاف: باہمی تضاد، انتفاء: غیر موجودگی، کمی، قلت، احتیاج، مُنَافٍ: متضاد، عکس، الٹ۔ مَنْفِي: مسترد کیا ہوا، نامنظور کیا ہوا، انکار کیا ہوا، تسلیم نہ کیا ہوا، نفی کیا ہوا، منفی، جلاوطن کیا ہوا۔

نق: ۱۔ نَقَّ ـــ نَقِیقًا الضفدعُ: مینڈک کا ٹرانا۔ (اسی طرح مرغی، چکور، بچھو، شتر مرغ وغیرہ کی آواز کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے)۔ کہا جاتا ہے۔ نَقَّتْ ضفادِعُ بطنه: اس کو بھوک لگی، عام لوگ کہتے ہیں۔ نَقَّ الولدُ: لڑکے نے بہت شکایت کی۔ ضرب المثل ہے ثلاثة لاتطاق النقُّ و الطقُّ و البقُّ: تین چیزیں ناقابل برداشت ہیں، ٹرانا، دھماکہ اور مچھر۔ أَنَقَّ: مینڈک وغیرہ کا ٹرانا۔ النَقَّاق: بہت ٹرانے والا۔ (ح) مینڈک۔ النَقَّاقة: نقاق کا مونث (ح): مینڈک۔ النَقُون جمع نُقُق و نُقّ: چلانے والا۔ ضفدع نقوق: ٹرانے والا مینڈک۔ النقیقیات (ح): ایک خلیہ والے چھوٹے جانور، میٹھے ٹھہرے ہوئے یا جاری پانی اور سمندر میں بکثرت ہوتے ہیں، ان کے جسم پر موئی سمور ہوتی ہے جو حرکت کرنے یا غذاء کیلئے ان کی مدد کرتی ہے۔

۲۔ نَقْنَقَ الضفدعُ: مینڈک کا ٹرانا۔ ـ ت العینُ: آنکھ کا اندر کو گھسا ہوا ہونا۔ النِقْنِیق جمع نَقَانِق: نر شتر مرغ۔

۳۔ النَقَانِق (فا): لمبے پتلے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھایا ہوا گوشت یا پھل، انہیں مقانق بھی کہا جاتا ہے۔

☆ نَقَ ـــ نَقِیقًا: مینڈک کا ٹرانا، (مرغی) کا کڑکڑ، کٹ کٹ کرنا۔ نَقَّاق: اکھڑ، بدمزاج شخص، چڑچڑا، ترش رو شخص، بڑبڑانے والا، شاکی، شکوہ مند، شکوہ سنج۔ نکتہ چین، عیب جو۔ نَقَّاقه: مینڈک۔ نَقِیق: (مینڈک کی) ٹرٹر، (مرغی کی) کوکو، کٹ کٹ۔

نقب: ۱۔ نَقَبَ ـ نَقْبًا الحائطَ: دیوار میں سوراخ کرنا ـ الخفَّ: موزے میں پیوند لگانا، کہا جاتا ہے: نَقَبَتِ النکبۃُ فلانًا: فلاں پر مصیبت آپڑی۔ ـ فلانٌ في الارض: زمین میں جانا۔ ـ عن الاخبار: خبروں کی تحقیق کرنا یا خبر دینا۔ نِقَابَۃً و نَقُبَ ـ نَقَابَۃً علی القوم: قوم کا سردار ہونا۔ (نِقَابۃ اسم اور نَقَابۃ مصدر ہے) نَقِبَ ـ نَقَبًا علی القوم: قوم کا سردار ہونا۔ الخفُّ الملبوسُ: پہنے ہوئے موزے کا پھٹا ہوا ہونا۔ ـــ البعیرُ: اونٹ کا گھسے ہوئے کھر والا ہونا۔ ـ الرجُلُ: پہاڑی راستوں پر چلنا۔ ـ في البلاد: ملک میں جانا۔ نَقَّبَ عن الشيء: بات کی کرید کرنا، تحقیق کرنا۔ ـ في الارض: (فرار ہوتے ہوئے) ملک میں سفر کرنا۔ نَاقَبَ نِقَابًا و مُنَاقَبَۃً ہُ: سے مناقب میں فخر کرنا۔ أَنْقَبَ البعیرُ: اونٹ کے کھروں کا گھسا ہوا ہونا۔ ـ الرجُلُ: سردار ہونا۔ ـ فلانٌ: گھسے ہوئے کھر والے اونٹ کا مالک ہونا۔ ـ في الارض: زمین پر سفر کرنا۔ تَنَقَّب عن الشيء: کی بہت کرید اور تحقیق کرنا۔ النَاقِب فا ـ (طب) پہلو کا ناسور۔ النَاقِبة: ناقب کا مونث، (طب) پہلو کا ناسور۔ النَقْب (مص) پہاڑی راستہ۔ (طب) پہلو کا ناسور، کھجلی خارش ـ جمع نِقَاب و أَنْقَاب: سوراخ۔ نَقْبُ العین: موتیابند کے پانی کا علاج۔ النُقْب: کھجلی، خارش۔ ـــ جمع نِقَاب و انقاب: پہاڑی راستہ۔ النُقَب: کھجلی، خارش۔ النِقْبَۃ: منہ ڈھانکنے کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

انداز، کہا جاتا ہے: امرأة حسنة النِقبة: منہ ڈھانکنے کے خوبصورت انداز والی عورت۔ انّ علیہ نِقبةً من کذا: اس پر کسی کا نشان ہے۔ النُقبة جمع نُقَب: چہرہ، کھلی کا آغاز یا شروع، زنگ، سوراخ، النِقاب (مص) جمع نُقُب: بڑا عالم۔ پہاڑی راستہ، پیٹ، ضرب المثل: فرخان في نِقاب: دو شخص شکل و شباہت میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ النِقابة: یونین۔ النقّاب کاموں میں گھس جانے والا، کاموں کو بہت دریافت کرنے والا۔ النَقیب: سوراخ دار (مو) بانسری، ترازو کی زبان۔ — جمع نُقَباء: قوم کا سردار یا نمبردار یا گواہ یا ضامن، چیف یا کیپٹن کے رتبہ کے برابر رتبہ والا۔ نقیبُ الاشراف عند المسلمین: رسول اللہ کی نسل کا سربراہ، یونین وغیرہ کا منتخب صدر۔ کلبٌ نقیبٌ: کتا جس کے نرخرے میں سوراخ کیا گیا ہو۔ النَقیبة: نقیب کا مونث۔ روح، عقل، طبیعت، مشورہ، رائے کا نفاذ، کہا جاتا ہے فلانٌ میمونُ النقیبة: فلاں شخص قابل ستائش تجربہ کا مالک ہے۔ الأنقاب: کان (جمع اس کا واحد نہیں آتا) المَنقَب: جانور کے پیٹ میں سوراخ کرنے کی جگہ۔ المَنقِب جمع مَناقِب: پہاڑی راستہ۔ المِنقَب: بحث و تحقیق کرنے والا عالم، نشتر، پہاڑی راستہ۔ — والمِنقَبة: نشتر۔ المَنقَبة جمع مَناقِب اچھا کام، کارنمایاں، شاندار خصوصیت یا وصف، خوبی، کمال، دیوار، پہاڑی راستہ، دو گھروں کے درمیان تنگ راستہ۔ مَناقِب الانسان: انسان کے عمدہ خصائل اور ستودہ اخلاق۔

۲۔ نَقَبَ — نَقبًا الثوبَ: کی واسکٹ بنانا۔ الفرسُ: دوڑنے میں گھوڑے کا ٹانگیں جوڑنا۔ تَنَقَّبَ و إنتَقَبَت المرأةُ: عورت کا نقاب باندھنا۔ النِقاب جمع نُقُب: عورت کا منہ ڈھانپنے کا پردہ۔ نقاب۔ النُقبة جمع نُقَب: بغیر نیفے کا پائجامہ۔

۳۔ ناقَبَ نِقابًا ہ: کو اچانک ملنا کہا جاتا ہے: وردتُ الماءَ نِقابًا: میں نے پانی کو طلب کئے بغیر پایا۔

۴۔ النُقبة جمع نُقَب: رنگ۔

○ نَقَبَ ـ نَقبًا ہ: میں گہرا سوراخ کرنا۔ کو چیرنا، چھیدنا، میں چھید ڈالنا، میں شگاف ڈالنا، رخنہ ڈالنا، کو کھودنا، کو کھود کر نکالنا، کی کھدائی کرنا، کو کھوکھلا کرنا۔ — في: میں سے گزرنا، کے پار جانا، کے مشرق سے مغرب تک سفر کرنا، کو قطع کرنا۔ — عن: کے متعلق پوچھنا، دریافت کرنا، سے ملاقات چاہنا، کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کی تفتیش کرنا، کا پوری طرح مشاہدہ کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا، کی چھان بین کرنا، تحقیقات کرنا۔ نَقِبَ ـ نَقَبًا: سوراخوں سے پر ہونا، چھیدا جانا، میں چھید ڈالا جانا۔ نَقَّبَ عن: (تیل کے لئے) برمے سے سوراخ کرنا، کا بغور مشاہدہ کرنا، مطالعہ کرنا، کی تفتیش کرنا، کی چھان بین کرنا، تحقیقات کرنا، کی تہ کو پہنچنا، کا جائزہ لینا، کو ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا۔ — في: کے ایک سرے سے دوسرے حصہ تک سفر کرنا۔ — ناقَبَ ہ: سے نیکیوں میں مقابلہ کرنا۔ — تَنَقَّبَ عن: کا بغور مشاہدہ کرنا، مطالعہ کرنا، کی تفتیش کرنا، کی تلاش کرنا، کو ڈھونڈنا۔ —: عورت کا چہرے پر نقاب ڈالنا۔ —: سوراخوں سے پورا ہونا، چھیدا جانا۔ إنتَقَبَ: نقاب پہننا، چہرہ پر نقاب ڈالنا نَقب: کھودنا، کھدائی، سوراخ ڈالنا، چھیدنا۔ — جمع أنقاب و نِقاب: سوراخ، رخنہ، شگاف، درز، راستہ، منہ، چھید، روزن، مشین سے کنواں کھودنا، برمانا سرنگ۔ نَقّاب: سوراخ کرنے کا آلہ، چھیدنے کی مشین، پیچ کس۔ نِقاب جمع نُقُب و انقِبة: چہرہ کا پردہ، نقاب، کَشَفَ النِقابَ عن: کو افشا کرنا، آشکارا کرنا، عیاں کرنا، فاش کرنا، ظاہر کرنا، منکشف کرنا۔ نِقابة جمع نِقابات: انجمن امداد باہمی Cooperative Society، یونین (Union) ایسوسی ایشن (Association)، انجمن پیشہ وران (Guild)، کارپوریشن (Corporation)، سنڈی کیٹ (Syndicate) (شرکت اخبارات، تعاونی انجمن، مقالہ رساں ادارہ، مجلس خصوصی) ٹریڈ یونین (انجمن پیشہ وران) لیبر یونین (مزدوروں کی انجمن) نِقابة العُمّال: ٹریڈ یونین لیبر یونین۔ نِقابی: انجمن امداد باہمی یا دکان امداد باہمی سے متعلق مزدور اشتراکی تحریک سے متعلق، ہڑتالی اشتراکیت کا حامی (Syndicalist) نِقابیة: فرانس کی اشتراکی مزدور تحریک، ہڑتالی اشتراکیت (Syndicalism) انجمن ہائے پیشہ وران کے اصولوں کی حمایت (Trade Unionism) نقیب جمع نُقَباء: رہنما، سربراہ، سردار، نمبردار، ڈائریکٹر، پرنسپل، چیف، انجمن، پیشہ وران کا صدر (Chairman of Guild) صدر (پریذیڈنٹ) سنڈیکیٹ کا رکن Syndic کارپوریشن کا وکیل۔ (فوجی) کیپٹن۔ (بحری فوج کا) لیفٹیننٹ، ترازو کی زبان۔ نقیبة جمع نَقائب: روح، ذہن، ذہانت، سمجھ، عقل، فہم، فراست، دماغ، طبعی مزاج، افتادِ طبع، فطرت، مزاج، کردار۔ مَنقِب و مَنقَب و مَنقَبة جمع مَناقِب: پہاڑی پگڈنڈی، گھاٹی، تنگ درہ، درہ۔ مَناقِب: نیکیاں، نمایاں خصوصیتیں، اوصاف پر شکوہ کام، کارنامے، کارہائے نمایاں، تَنقیب جمع تنقیبات: (تیل کیلئے) زمین میں سوراخ کرنا، کھدائی، تفتیش، بغور مشاہدہ، تحقیقات، تلاش، گہرا مطالعہ، (علمی) تحقیق۔ مُنَقِّب: تحقیقات کنندہ، محقق علمی تحقیق کرنے والا، عالم، غیر معروف علاقے کی سیاحت کرنے والا النَقَب: (جنوبی اسرائیل میں ریگستانی علاقہ)

نقت: نَقَتَ — نَقتًا العظمَ: ہڈی کا گودا یا مغز نکالنا۔

نقث: ا۔ نَقَثَ — نَقثًا العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ — الشيءَ المدفونَ: دبی ہوئی چیز کو کھود کر نکالنا۔ — الرجلُ في الامر او السير: کام یا چلنے میں جلدی کرنا۔ — الحديثَ: بات کو پیچیدہ کرنا، خلط ملط کرنا۔ — فلانًا بالكلام: کو بات سے ایذا دینا۔ — الارضَ بيده: زمین کو کدال سے اڑانا۔ — عن الشيء: کو جلدی کرنا۔ نَقَّثَ الرجلُ: جلدی کرنا۔ تَنَقَّثَ ہ: کو مائل کرنا، مہربان بنانا۔ — ضيعتَهُ: اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کرنا۔ إنتَقَثَ العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ — الشيءَ المدفونَ: دبی ہوئی چیز کو کھود کر نکالنا۔ النَقث (مص): چغلی، نَقّاث: ہجو۔

۲۔ نَقثَلَ نَقثَلَةً الشيخُ: بوڑھے آدمی کا چلنے میں مٹی اڑانا۔

نقح: نَقَحَ — نَقحًا العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ — الجذعَ: تنے کی گانٹھیں کاٹ کر صاف کرنا۔ — الشيءَ: کو چھیلنا، ردی کو خالص سے جدا کرنا۔ نَقَّحَ العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ — الجذعَ: تنے کی گانٹھیں کاٹ کر صاف کرنا۔ — الشيءَ: کو چھیلنا، اور ردی کو خالص سے جدا کرنا۔ — الكلامَ: کلام کی اصلاح و درستی کرنا۔ — السنونَ الرجلَ: سالوں کا مرد کو کمزور کر دینا۔ أنقَحَ الكلامَ: کلام کی اصلاح و درستی کرنا۔ — الرجلُ: تنگی پر تلوار کی زیبائش اتارنا۔ تَنَقَّحَ شحمُهُ: کی چربی کم ہونا۔ إنتَقَحَ العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ النُقح (مص) موسم گرما کا سفید بادل۔ النِقح: تجربہ کار عالم۔ النَقِح: خالص ریت۔ التنقيح (مص): معنی کی وضاحت کے ساتھ الفاظ کا اختصار۔

○ نَقَحَ ـ نَقحًا ہ: (درخت کو) تراشنا، چھانٹنا، قلم کرنا، درخت کی شاخیں کاٹ ڈالنا، (چیز کو) کانٹ چھانٹ کر درست کرنا، آراستہ کرنا، سجانا، سنوارنا، کترنا، تراشنا، حذف کرنا، مختصر کرنا، کم کرنا، نَقَّحَ (ہ): (مندرجہ بالا معانی کے علاوہ) (تحریر) پر نظر ثانی کرنا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

دوبارہ غور کرنا، تحقیقات یا تنقیح کرنا، (کتاب پر) تبصرہ یا تنقید کرنا، (تحریر کی) جانچ پڑتال کر کے اصلاح کرنا، تصحیح کرنا، (تحریر کو) احتیاط سے پڑھنا (اسلوب وغیرہ) کو بہتر بنانا، شائستہ بنانا، خالص بنانا، صاف بنانا۔ اَنْقَحَ ہ: کی جانچ پڑتال کرنا، تنقیح کرنا، تصحیح کرنا، کو جانچنا، کا جائزہ لینا، کا مطالعہ کرنا، کا دوبارہ بغور مشاہدہ کرنا، پر دوبارہ غور کرنا، پر نظر ثانی کرنا، میں ترمیم کرنا، کا اعادہ کرنا، کی تصحیح کرنا، اصلاح کرنا۔ تَنْقِیح: جانچ پڑتال، تنقیح، جائزہ تصحیح، اصلاح، جانچ، دوبارہ مشاہدہ یا غور، نظر ثانی، تصحیح۔

نقخ: نَقَخَ ـ نَقْخًا ہُ: کو مارنا۔ دماغَهُ: کا دماغ توڑ دینا۔ اِنْتَقَخَ المخَّ من العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔ النُقَاخ: صاف ٹھنڈا پانی، نیند، عافیت، امن، نُقَاخ کلِ شی: خالص چیز، کہا جاتا ہے۔ هذا نُقَاخُ العربیة: یہ عربی کا لب لباب ہے، یہ خاص عربیت ہے۔

نقد: ۱۔ نَقَدَ ـ نَقْدًا و تَنْقَادًا الدراهمَ وغیرها: درہم وغیرہ کو پرکھنا۔ ــ الکلامَ: کلام کی خوبی اور برائی ظاہر کرنا ــ فلانًا و لفلانٍ الثمنَ: کو قیمت نقد ادا کرنا ــ ہُ درهمًا: کو درہم دینا۔ نَقِدَ ـ نَقَدًا الضرسُ او القرنُ: دانت یا سینگھ کا ٹوٹنا یا کھایا ہوا ہونا، صفت نَقِد۔ ــ الحافرُ: کھر کا چھلنا۔ ــ الجذعُ: تنہ کا کھوکھلا ہونا۔ نَاقَدَ مُنَاقَدَةً ہُ: سے کسی معاملہ میں بحث کرنا، جھگڑنا۔ أَنْقَدَ الشجرُ: درخت کا پتے لانا۔ پتوں والا ہونا۔ تَنَقَّدَ الدراهمَ وغیرها: درہموں وغیرہ کو پرکھنا۔ تَنَاقَدَ الدراهمَ: درہموں کو پرکھنا، کھوٹے نکال دینا۔ اِنْتَقَدَ الدراهمَ: کھوٹے درہم الگ کرنا، درہم نقد وصول کرنا۔ ــ ت الأَرَضةُ الجذعَ: دیمک کا تنہ کو کھوکھلا کر دینا۔ ــ الولدُ: لڑکے کا جوان ہونا۔ ــ الشِعْرَ علی قائلہ: پر شعر کا عیب ظاہر کرنا۔ ــ الکلامَ: کلام کی اچھائیاں اور برائیاں ظاہر کرنا۔ النَاقِد جمع نَقَدَہ و نُقّاد (فا)۔ النَقْد (مص) جمع نُقُود: نقد قیمت، درہم، کہا جاتا ہے: درهمٌ نَقْدٌ: پورے وزن کا عمدہ درہم۔ النَقْدانِ: سونا اور چاندی۔ نَقْدُ العروس: دلہن کا مہر، (عام زبان میں) النِقد و النُقد: کم گوشت والا، دیر سے جوان ہونے والا۔ النَقَد: کمینے لوگ۔ النَقّاد: درہم وغیرہ پرکھنے والا۔ المُنْتَقَد: مصدر میمی، انتقاد کے معنی میں۔

۲۔ نَقَدَ ـ نَقْدًا و تَنْقَادًا الطائرُ الفخَّ او الحبَّ: پرندہ کا جال یا دانے پر چونچ مارنا۔ ــ تہُ الحیّةُ: کو سانپ کا ڈسنا۔ ــ الرجُلُ الشیءَ والی الشیء بنظرہ: کو چپکے چپکے دیکھنا یا تکنا۔ مِنْقَادُ الطائر جمع مَنَاقِید: پرندہ کی چونچ۔

۳۔ النَقَد جمع نِقَاد و نِقَادَة (ح): بھیڑوں کی ایک قسم جن کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ واحد نَقَدَة (مذکر و مونث دونوں کے لئے) ــ من الصبیان: دیر سے جوان ہونے والا بچہ۔ و النُقُد: واحد نَقَدَة و نُقُدَة (ن): درخت کی ایک قسم۔ النَقّاد: چھوٹی قسم کی بھیڑوں کا چرواہا۔ انقد (ح): سیہی، کہا جاتا ہے: بات بلیلِ انقَدَ: وہ نہیں سویا، کیونکہ سیہی تمام رات نہیں سوتی۔ الأَنْقَد (ح): کچھوا، (ح): سیہی۔ الإِنْقِدان (ح): کچھوا۔

○ نَقَدَ ـ نَقْدًا ہ ہ: کو کوئی چیز نقد ادا کرنا۔ ــ ہ: کو ٹھونگے مارنا، کی تنقیدی نظر سے پڑتال کرنا۔ ــ علی ہ: پر کے لئے تنقید کرنا۔ نَاقَدَہ: سے باز پرس کرنا، کا محاسبہ کرنا، مواخذہ کرنا۔ انْقَدَہ ہ: کو کچھ ادا کرنا۔ إِنْتَقَد ہ: پر تبصرہ کرنا، کی غلطیاں نکالنا، پر اعتراض کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا، پر یا کے خلاف احتجاج کرنا، کو غلط ثابت کرنا۔ ــ علی: کی خامیوں اور کمزوریوں کی اصلیت بتانا، پر تنقید کرنا۔ ــ: نقد ادائیگی وصول کرنا۔ نقد: تنقید نگاری، تبصرہ نگاری، تنقید، نکتہ چینی، حرف گیری، اعتراض، اعتراضات، نقد، جمع نقود: سکے، ریزگاری۔ نَقْدًا: نقد بالنقد: نقد، ورق النَقْد: بینک نوٹ، نوٹ، زرِ کاغذی۔ حافِظةُ النقود: بٹوا۔ نَقْدِی: روپے پیسے کے متعلق، نظام زر کے متعلق مالی، سکوں وغیرہ کا، مسکوکاتی، نقد تضخم نقدی: افراط زر۔ جَزَاءٌ نَقَدِیٌّ: نقدی یا مالی جرمانہ۔ نَقْدِیَة: نقد، نقّاد: نقاد، تنقید نگار، تبصرہ نگار، جائزہ نگار۔ نَقّادَة: نکتہ چین، حرف گیر، عیب چین، عیب جو یا خوردہ گیر تنقید نگار، تبصرہ نگار، نکتہ چین، حرف گیر، خوردہ گیر۔ مَنْقَد: انگارہ دان۔ إِنْتِقَاد جمع انتقادات: اعتراض، احتجاج، تنقید، ڈانٹ، اظہار ناراضگی، ڈانٹ ڈپٹ، زجر و توبیخ، لعن طعن، تغلیط، جائزہ، تبصرہ، تنقیدی تحقیق، نَاقِد جمع نَاقِدون و نُقّاد و نَقَدَة: تبصرہ نگار، تنقید نگار۔ مُنْتَقِد: تبصرہ نگار، تنقید نگار۔ مُنْتَقَد: مستوجب الزام، برا، نامناسب، لائق ملامت، قابل اعتراض۔

نقذ: ۱۔ نَقَذَ ـ نَقْذًا و نقذ و انقذ فلانًا من کذا: کو سے نجات دلانا، خلاصی دلانا، چھٹکارا دلانا۔ نَقِذَ ـ نَقَذًا: نجات پانا۔ تنقّذ و إِسْتَنْقَذَہُ من کذا: کو سے خلاصی دلانا، نجات دلانا۔ النَقْذ (مص): سلامتی۔ نَقْذًا لكَ: تو سلامت رہے۔ (اس دعاء کی اصل: نَقَذَكَ اللّٰهُ نَقْذًا ہے) النَقَذ (مص): چھڑایا ہوا، بچایا ہوا، نجات دلایا ہوا، کہا جاتا ہے۔ مَالَهُ شَقَذٌ ولا نَقَذٌ: اس کے پاس کچھ نہیں۔ النَقِیذ: دشمن سے چھڑایا ہوا۔ النَقِیذَة جمع نَقَائِذ: گھوڑا زرہ وغیرہ جسے دشمن سے چھڑایا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے: هو نَقِیْذَة بؤس: وہ سختی سے بچایا گیا ہے۔

۲۔ الأَنْقُذ (ح): سیہی، خار پشت۔

○ نَقَذَ ـ نَقْذًا ہ من: کو سے نجات لانا، بچانا، چھڑانا۔ نَقِذَ ـ نَقَذًا: بچنا، چھڑایا جانا، نجات دلایا جانا، فرار ہونا۔ انْقَذَہ من: کو سے بچانا، خلاصی دلانا، بچانا، چھڑانا، نجات دلانا۔ ــ ہ: کو بچانا، کو پھر پالینا، پھر حاصل کرنا، کو واپس لینا، إِسْتَنْقَذَہ من: بمعنی انْقَذَہ من۔ إِنْقَاذ: نجات، خلاصی، چھٹکارا، بچاؤ، رستگاری، مکتی، حفاظت، رہائی، بازیافت، دستگیری۔ إِسْتَنْقَاذ: بمعنی إنقاذ، مُنْقِذ: نجات دہندہ، بچانے والا، چھٹکارا دلانے والا۔

نقر: ۱۔ نَقَرَ ـ نَقْرًا ہُ: کو مارنا۔ ــ الشیءَ: میں چونچ سے سوراخ کرنا ــ الطائرُ البیضة عن الفرخ: پرندہ کا بچہ نکالنے کے لئے انڈے میں سوراخ کرنا۔ ــ الطائرُ الحبَّ: پرندہ کا دانہ چگنا۔ ــ الحجرَ او الخشبَ: پتھر یا لکڑی کھودنا۔ ــ ت الخیلُ بحوافرها: گھوڑے کا اپنے کھروں سے کھودنا۔ ــ السهمُ الهدفَ: تیر کا نشانہ پر لگنا مگر پار نہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: رَمَی الرامی الغرضَ فنقرہٗ: تیر پھینکنے والے نے نشانہ پر تیر لگایا۔ ــ العودَ او الدفّ: بانسری یا ڈھول بجانا۔ ــ فی الحجر: پتھر پر لکھنا۔ ــ فی الناقور: بگل بجانا۔ ــ فلانٌ: چٹکی بجانا، زبان کو تالو سے لگا کر آواز نکالنا۔ ــ عن الامر: معاملہ کی چھان بین کرنا۔ ــ فلانًا: پر عیب لگانا، نقرتُ بالرجُلِ: میں نے مرد کو لوگوں میں سے بلایا۔ ــ نَقِرَ ـ نَقَرًا علی فلان: پر غضبناک ہونا۔ ــ الشاةُ: بکری کا نقرہ کی بیماری والا ہونا۔ ــ فلانٌ: فقیر ہونا۔ نَقَّرَ الطائرُ فی الموضع: پرندہ کا جگہ کو انڈا دینے کے لئے نرم کرنا۔ ــ الطائرُ الحبَّ: پرندوں کا دانہ چگنا۔ (تشدید: مبالغہ کیلئے ہے) ــ الشیءَ و عن الشیء: کی چھان بین کرنا۔ ــ علی فلان: پر نکتہ چینی کرنا اور عیب گیری کرنا۔ ــ فلانٌ باسمِ فلان: لوگوں میں سے کسی کا نام لے کر پکارنا۔ نَاقَرَ مُنَاقَرَةً و نِقَارًا ہُ: سے بات چیت میں جھگڑنا، مخالفت کرنا۔ کہا جاتا ہے: بینهم مُنَاقَرَة: ان کے درمیان جھگڑا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے۔اسی سے ہے: مناقرة الديوك: مرغوں کی لڑائی۔ انقر الرجل: زبان کے کنارے سے نون کی آواز نکالنا۔چٹکی بجانا۔ تنقر الشیٔ: کی چھان بین کرنا۔ على الاهل او المال: بددعا کرنا اور کہنا اللہ تم سے مجھے آرام دے اور تمہارا مال لیجائے۔ انتقرت الخیل بحوافرها نقرًا: گھوڑے کا کھروں سے کھودنا۔ ت السیول نقرًا: سیلاب کا گڑھے ڈالنا جن پر پانی رکا رہے۔ الشیٔ: کو لکھنا، کی چھان بین کرنا۔ هٗ: کو پسند کرنا۔ هٗ و انتقربه: کو قوم میں سے علیحدہ بلانا۔ القوم و بالقوم: قوم میں سے خاص خاص لوگوں کو بلانا۔ الناقر (فا) جمع نواقر نشانہ پر لگنے والا تیر۔ الناقرة جمع نواقر: ناقر کا مونث: مصیبت، ٹھیک دلیل، کہا جاتا ہے: اتتنی منه نواقرُ: اس کی طرف سے مجھے ایذا دینے والی باتیں پہنچیں۔ اخطأت نواقرهُ: وہ حق پر نہ رہا، بینهم ناقرة: ان کے درمیان مخاصمت ہے۔ الناقور جمع نواقیر: بانسری، بگل، دل، النقر: کھجور کی گٹھلی کا چھوٹا سا گڑھا۔ سوراخ النقر (مص): چٹکی کی آواز، پتھر کی تحریر (لکھائی) النقر: غضبناک، ناراض، (هو نقر علیك: وہ تم سے ناراض ہے)، نقرہ کی بیماری میں مبتلا۔ ماله بموضع کذا نقرٌ: اس کا فلاں جگہ پانی یا کنواں نہیں ہے۔ النقر (مص) (کہا جاتا ہے: اعوذ بالله من العقر و النقر: میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے لنجے پن اور مال کے ضائع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ النقرة: نقرہ کا اسم مرہ: کہا جاتا ہے: ما اثابه نقرةً: اس نے اس کو کچھ بھی بدلہ نہیں دیا۔ ما أغنی عنّی نقرةً: مجھے کچھ ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا (صرف نفی میں استعمال ہوتا ہے) النقرة جمع نقر و نقار: زمین میں چھوٹا سا گول گڑھا۔ چاندی سونے کا پگھلا ہوا ٹکڑا، آنکھ کا گڑھا، کولہے کے وسط کا گڑھا، سرین کا گڑھا، گردن کے پچھلے حصہ کا گڑھا، پرندہ کا بیضہ دان، گٹھلی کی پشت کا نشان یا داغ۔ النقرة: جھگڑا، کہا جاتا ہے: بینهم نقرة: ان کے مابین جھگڑا ہے۔ النقرة: نیچے اترتی ہوئی پشت زمین۔ نقر کا مونث۔ النقرة: بکریوں اور گایوں کی ٹانگوں میں پیدا ہونے والی بیماری۔ النقارة: چونچ بھر، پتھر پر لکھنے سے جو باقی رہے، کہا جاتا ہے: ماترك عندی نقارةً الا انتقرها: اس نے میرے پاس ہر چیز کو لکھ لیا۔ النقری: عیب، کہا جاتا ہے: دعوتهم النقری: میں نے انہیں خاص دعوت دی، میں نے انہیں خصوصیت سے بلایا، اس کے مقابل عام دعوت کو الجفلی کہا جاتا ہے بنات النقری: وہ عورتیں جو گزرنے والوں پر عیب لگاتی ہیں۔ ذلیل عورتیں۔ النقار: مبالغہ کا صیغہ، لکڑی یا پتھر پر کھدائی کرنے والا، لگام یا رکاب پر نقش و نگار کرنے والا (اس پیشہ کو نقارہ کہتے ہیں) امور اور خبروں کی چھان بین کرنے والا (ح) چونچ مارنے والا پرندہ۔ النقارة: نقار کا مونث۔ ج نقارات: بڑا ڈھول، بعض لوگ اسے نقیرہ کہتے ہیں۔ النقیر جمع انقرة: کھجور کی گٹھلی کا گڑھا، پتھر اور لکڑی جس پر کھدائی کی گئی ہو۔ کھجور کا تنہ جس کو کھوکھلا کر کے سیڑھیاں یا کٹہرا بناتے ہیں، لکڑی کی جڑ جس کو کھود کر اس میں نبیذ بناتے ہیں۔ مرد کی اصل، (کہا جاتا ہے فلانٌ کریمُ النقیر: فلاں شخص خاندانی ہے) آواز، بہت غریب (ح): ایک سیاہ رنگ کی مکھی۔ النقیرة: چھوٹی کشتی۔ الانقور: کھجور کی گٹھلی کا گڑھا۔ التنقیر (مص): سیٹی کے مشابہ آواز۔ المنقر جمع مناقر: کدال۔ چھنی۔ ج مناقیر: لکڑی کا پیالہ، تنگ منہ کا چھوٹا کنواں یا بہت پانی والا گہرا کنواں، حوض۔ المنقر جمع مناقیر: لکڑی کا پیالہ، تنگ منہ کا چھوٹا کنواں یا بہت پانی والا گہرا کنواں، حوض۔ المنقر: بہت ترش دودھ۔ المنقار: کدال، چونچ، چرمی موزے کی نوک۔ منقار الدجاجة (فلك): ایک ستارہ۔ منقار الغراب (ع ا) کندھے کی ہڈی جسے الاخرم بھی کہتے ہیں (فلك): ایک ستارہ کہا جاتا ہے: هو منقر العین و منتقرها: وہ دھنسی ہوئی آنکھ والا ہے۔

۲۔ انقر عنه: سے رکنا، کہا جاتا ہے: ضربهٗ فما انقر عنه حتی قتله: وہ اسے مارنے سے نہ رکا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔

۳۔ نقرد نقردةً فی المکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا، کہا جاتا ہے: مالك منقردًا: کیا وجہ ہے تم مقیم ہو۔

۴۔ النقرس جمع نقارس: (طب) نقرس کی بیماری ہلاکت، بڑی مصیبت، ماہر رہنما، طبیب حاذق، گلاب کے پھول جیسی چیز جس کو عورتیں سر میں رکھتی ہیں النفریس: ماہر رہنما، طبیب حاذق۔

○ نقر ـــ نقرًا ه: کو کھودنا، میں سوراخ کرنا، میں گڑھا بنانا، کو کاٹنا، میں کندہ کاری کرنا، منبت کاری کرنا۔ ـــ فی: میں کندہ کرنا، کھودنا، نقش کرنا، پر لکھنا۔ ـــ ه: دانہ چگنا۔ ـــ ہ: کو ٹھونگے مارنا، کو گھونسا لگانا، کے سر پر ضرب سے چکرا دینا، کو آہستہ سے مارنا۔ ـــ ه: ڈھول بجانا۔ ـــ ہ: کی توہین کرنا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کو تنگ کرنا، کو بدنام کرنا، سے ... کرنا، کی بدگوئی کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، پر تہمتیں دھرنا، بہتان باندھنا، کو خواہ مخواہ بدنام کرنا، کو ملامت کرنا، پردر پردہ الزامات لگانا۔ ـــ عن: کی تفتیش کرنا، کی پڑتال کرنا۔ نقر ـــ نقرًا علی: سے خفا ہونا، سے ناراض ہونا، دلگیر ہونا۔ نقّر ه: کو ٹھونگیں مارنا۔ ـــ عن: کی تفتیش کرنا، کی پڑتال کرنا، ناقره: کے ساتھ بحث کرنا، جھگڑنا، تو تو میں میں کرنا، سے معمولی معمولی باتوں پر الجھنا۔ نقْر: کھدائی، کھود کر بنانا، کھوکھلا کر کے بنانا۔ نقش و نگار کھودنا، منبت کاری کرنا، تراشنا، کاٹ کر نقش بنانا، مورت بنانا، کھودنا، کندہ کرنا، قلم کاری کرنا، نقاشی کرنا، کھوکھلا پن، کھوہ، بڑا سوراخ، خلا، جوف، گڑھا، انگلیاں چٹخنا، چٹکی بجانا۔ نقر: ناراض، دلگیر، جذبات کو ٹھیس لگا ہوا، خفا۔ نقرة جمع نقرات: چوٹ، ضرب، گھونسا، مکا، دھماکا، ذرہ بھر، ذرہ، پرکاہ، نقارے کی چوٹ، تھاپ، نقرة: جھگڑا، بحث، معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا، تو تو میں میں۔ نقار: کندہ کار۔ نقار الخشب: کٹھ پھوڑا (ایک پرندہ) نقارية جمع نقاریات: انگلیوں سے بجانے والا باجا جو ڈھول سے مشابہ ہوتا ہے۔ نقیر: کھجور کی گٹھلی کے گڑھے میں ایک چھوٹا سا داغ، بالکل بے کار چیز۔ لا یجدی شروی نقیر: یہ ذرا بھی مدد نہیں کریگا، یہ تمہیں کہیں نہیں لے جائیگا، لا یملك شروی نقیر: اس کے پاس بالکل کچھ نہیں۔ لافتیل ولا نقیر: بالکل ہی کچھ نہیں۔ نقیرة جمع نقائر: بادبانی جنگی جہاز، نقارة: نقارہ۔ ناقور جمع نواقیر: بگل۔ نقورة: بچوں کی سی باتیں، بے کار باتیں، منقار جمع مناقیر: چونچ، کدال، مناقرة: نوک جھونک، جھگڑا، ٹنٹا، حجت، تکرار۔ ناقرة جمع نواقر: نوک جھونک، جھگڑا، ٹنٹا۔ حجت، استدلال، مصیبت۔ نقرزان: چھوٹا ڈھول، طبل نواز، ڈھولچی، نقارچی۔ نقرس: گنٹھیا، ماہر و حاذق حکیم (طبیب) نقریس: ماہر و حاذق حکیم (طبیب)۔

نقز: ۱۔ نقز ـــ نقزًا و نقزانًا و نقازًا الظبیُ: ہرن کا کودنا، چھلانگ مارنا، صفت ناقز ـــ هٗ عنهم: کو لوگوں سے دفع کرنا، ہٹانا۔ نقّزت الصبیَّ امُّهٗ: ماں کا بچہ کو اچھالنا۔ ـــ فلانًا: کو کودانا۔ انقز علوّهٗ: کو فورًا قتل کر دینا۔ ـــ الرجلُ: نقاز بیماری والے مویشی والا ہونا۔ انتقزت الشاةُ: بکری کا نقاز کی بیماری والا ہونا۔ الناقزة جمع نواقز: ناقز کا مونث۔ نواقز الدابة: چوپایہ کی ٹانگیں۔ النُقاز: طاعون کی طرح کی جانوروں کی ایک بیماری۔ النَقاز و النقاز جمع نقاقیز (ح): ایک پرندہ، چڑیوں کے بچے۔ المنقوزم منقوزة:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نقاز بیماری میں مبتلا۔

۲۔ أَنْقَزَ الرجُلُ: ردی مال حاصل کرنا، جمع کرنا۔ إِنْتَقَزَ فلانٌ لفلانٍ من مالِهِ: کسی کا کسی کو ردی مال دینا۔ ـــ لفلانٍ شرَّ الابل: کے لئے بدترین اونٹ پسند کرنا۔ عطاءٌ نَاقِزٌ و زونَاقِزٍ: خسیس (ردی) عطاء۔ النِقز: خسیس مال۔ گھٹیا لوگ۔ النقز: واحد نَقَزَة: گھٹیا مال، رذیل طبقہ کے لوگ

۳۔ أَنْقَزَ الرجُلُ: ہمیشہ صاف اور میٹھا پانی پینا۔ النُقُز: کنواں۔ النِقز: صاف اور میٹھا پانی۔

۴۔ أَنْقَزَ عن الشيءِ: سے رکنا، باز رہنا۔

۵۔ النِقز و النَقِز: لقب۔

ⓒ نَقَزَ: چھلانگ، جست، بدکنا، بھڑکنا۔

نقس: ۱۔ نَقَسَ ـُ نَقْسًا الناقوسَ بالخشبة: لکڑی سے ناقوس بجانا۔ ـــ الناقوسُ: ناقوس بجنا۔ نَقَّسَ القومَ بناقوسه: ناقوس بجا کر لوگوں کو بلانا۔ إِنْتَقَسَ: ناقوس بجانا۔ النِقس جمع نُقُس: ناقوس کی ایک قسم۔ الناقوس جمع نَوَاقِيس: لوہے کا ٹکڑا جو لکڑی سے بجایا جاتا ہے۔ گھڑیال

۲۔ نَقَسَ ـُ نُقُوسًا بين القوم: قوم میں فساد ڈالنا۔ ـــ الشرابُ: شراب کا ترش ہونا۔ نَقِسَ ـَ نَقَسًا هُ: پر عیب لگانا، سے مسخری کرنا۔ نَقَّسَ فلانًا: کو لقب دینا۔ ـــ الدواةَ: دوات میں روشنائی ڈالنا۔ نَاقَسَ هُ: پر عیب لگانا، کہا جاتا ہے: بينهما مُنَافَسَةٌ و مُنَاقَسَةٌ: دونوں کے درمیان مقابلہ اور حرف گیری ہے۔ النَاقِس (فا): ترش، کہا جاتا ہے لبنٌ ناقِسٌ و شراب ناقس: ترش دودھ اور شراب۔ النَقس جمع نُقُس: کھجلی، خارش، النِقس جمع أَنْقَاس و أَنْقُس: روشنائی، رجلٌ نِقسٌ: عیب گیر، لوگوں کے لقب رکھنے والا۔ النِقاسة: لقب دینا۔ الأَنْقَس: کھجلی والا، کنیز زادہ۔

۳۔ النُقوس (ن) ایک قسم کی نبات۔

ⓒ نَاقُوس جمع نَوَاقِيس: گھنٹی، گھنٹہ، جرس، ہاتھ کی گھنٹی، گھنٹی کی جھنکار۔

نَقَش: نَقَشَ ـُ نَقْشًا الشيءَ: پر بیل بوٹے ڈالنا، نقش و نگار کرنا۔ ـــ العِذقَ: کھجور کے خوشہ کو پکانے کیلئے کانٹوں سے مارنا۔ ـــ فَصَّ الخاتم: انگوٹھی کے نگینہ پر نقش کرنا۔ ـــ الرحی: چکی ٹانچنا، کے دندانے بنانا۔ ـــ الشوكة من رِجْلِهِ: پاؤں سے کانٹا نکالنا۔ ـــ مربض الغنم: بکریوں کے باڑے کو پتھروں اور کانٹوں وغیرہ سے صاف کرنا۔ ـــ عن الشيء: کی بہت وضاحت کرنا۔ الشعر بالمِنقاش: موچنے سے بال نوچنا۔ کہا جاتا ہے: مانَقَشَ منه شيئا: اس نے اس سے کچھ نہیں پایا۔ نَقَّشَ الشيءَ: پر نقش و نگار کرنا۔ نَاقَشَ هُ الحسابَ و في الحساب: سختی سے حساب کی تفصیل لینا۔ ـــ فلانًا: سے بحث کرنا، جھگڑنا۔ ـ قضِيَّةً رياضِيَّةً: مختلف حسابی حالات پر غور کرنا۔ أَنْقَشَ: ہمیشہ خشک کھجور کھانا جس کو توشہ میں رکھ کر اس میں پانی ڈالا جاتا ہو۔ ـــ على غريمه: مقروض سے پورا وصول کرلینا۔ تَنَقَّشَ جميع حقِّهِ من فلان: سے اپنا پورا حق لینا۔ إِنْتَقَشَ فلانٌ: نقش نگار کرنے والے کو نگینہ پر کندہ کرنے کا حکم دینا۔ ـــ على فصِّهِ كذا: نگینہ پر کوئی چیز کھدوانا۔ ـــ الشوكة: پاؤں سے کانٹا نکالنا، کبھی انتقاش سے سزا اور گناہوں کے تدارک کا استعارہ کیا جاتا ہے۔ ـــ الشيءَ: کو نکالنا۔ ـــ من زيد جميع حقِّهِ: (زید سے) اپنا تمام حق لے لینا۔ ـــ فلانًا: کو پسند کرنا، کہا جاتا ہے: إِنْتَقَشْتُكَ لكذا: میں نے تمہیں فلاں کام وغیرہ کیلئے پسند کیا۔ انتقش لنفسه خادمًا او غيره: اپنے لئے نوکر وغیرہ پسند کرنا یعنی نوکر وغیرہ لینا۔ النَقْش (مص): سوکھی کھجور جس کو توشہ میں رکھ کر پانی میں تر کیا جائے۔ ـــ وجمع نُقُوش: زمین میں نشان، نقش و نگار۔ النِقاشة: نقاشی کا پیشہ۔ النَقَّاش: نقش و نگار کرنے والا۔ النَقِيش: برتن میں رکھی ہوئی مختلف چیزیں۔ نظیر کہا جاتا ہے مَالَهُ نقيش: وہ بے نظیر ہے۔ المِنقش و المِنقاش جمع مَنَاقِش و مَنَاقِيش: موچنا، نقش و نگار کرنے کا برش، پنسل، چھینی، کانٹے نکالنے کا اوزار، کہا جاتا ہے: استخرجت منه حقي بالمناقيش: میں نے اس سے اپنا حق وصول کرنے میں بہت تکلیف اٹھائی یا تھک گیا۔ المَنَاقِيش: واحد مَنْقُوشَة: کیک، سموسہ، پیسٹری۔ المَنقوش: دینار، کچی کھجور جس کو پکانے کیلئے اس میں کانٹا چبھوئیں۔ الشجَّة المُنَقِّشة و المَنقوشة: زخم جس سے ہڈیاں نکالی جائیں۔

ⓒ نَقَش ـُ نَقْشًا هُ: کو مختلف رنگوں سے بوقلموں بنانا، میں مختلف رنگوں کے ٹکڑے لگانا، کو رنگ برنگا کرنا، پر مختلف رنگ تھوپنا، کو رنگنا، پر رنگ چڑھنا۔ ـــ هُ: پر نقاشی کرنا، کو نقش و نگار سے آراستہ کرنا، کو چھینی سے توڑنا، سے مجسمے بنانا، پر نقش و نگار کھودنا، منبت کاری کرنا۔ ـــ على هُ: پر کچھ کھودنا، کچھ کندہ کرنا، قلم کاری کرنا، نقاشی کرنا۔ نَقَّش: نقاشی کرنا، نقش و نگاری سے آراستہ کرنا، کندہ کرنا، قلم کاری کرنا، مجسمے بنانا۔ نَاقَش هُ: سے بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ ـــ هُ: پر بحث کرنا، مباحثہ کرنا، پر تبصرہ کرنا، تنقید کرنا، اعتراض کرنا، کے خلاف احتجاج کرنا۔ ـــ هُ: کو سننا، سے پوچھ گچھ کرنا، کی تفتیش کرنا۔ تَنَاقَشَ في: کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا، جھگڑنا۔ إِنْتَقَشَ هُ: کانٹا وغیرہ نکالنا۔ نَقْش جمع نُقُوش: رنگین تصویر، نقش رنگین، تصویر، خاکہ، کندہ تصویر کا نقش، نقش کندہ، نقش، کتبہ، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، مجسمہ، شکل نقشہ۔ نَقَّاش: رنگ ساز، مصور، فنکار، سنگ تراش، مجسمہ ساز۔ مِنقَش جمع مَنَاقِش: چھینی، مِنقاشٌ جمع مَنَاقِيش: چھینی، نِقاش و مناقشه: بحث، مباحثہ۔ مُنَاقشه: قیل و قال، نزاع، جھگڑا، تکرار، گرما گرمی۔ مَنقُوش: رنگین، مثلاً، بوقلموں، رنگین (تصویر)، روغن شدہ، کندہ کیا ہوا، کھودا ہوا، نقش کیا ہوا، مجسمہ بنایا ہوا، لکھا ہوا۔ مُناقِش: کسی جھگڑے وغیرہ میں مخالف یا حریف، شریک نزاع، جھگڑے میں حصہ لینے والا۔

نقص: ۱۔ نَقَصَ ـُ نَقْصًا و تنقاصًا و نُقْصَانًا الشيءُ: کم ہونا، گھٹنا۔ ـــ تُ الشيءَ: میں نے چیز کو گھٹا دیا، کم کر دیا۔ ـــ ت زيدًا حقَّهُ: میں نے زید کو اس کا حق کم کرکے دیا۔ نَقَّصَ و أَنْقَصَ الشيءَ: کو کم کرنا، گھٹانا، ناقص کرنا۔ تَنَقَّصَ فلانًا: کی مذمت کرنا، عیب جوئی کرنا۔ ـــ الشيءَ: سے تھوڑا سا لینا یا تھوڑا تھوڑا لینا۔ تَنَاقَصَ الشيءُ: آہستہ آہستہ کم ہونا یا گھٹنا۔ إِنْتَقَصَ الشيءُ: کم ہونا، گھٹنا۔ ـــ الشيءَ: کو گھٹانا، کم کرنا۔ ـــ هُ حقَّهُ: میں نے اسے اس کا حق کم کرکے دیا۔ ـــ الرجلَ: کی عیب گیری کرنا۔ إِسْتَنْقَصَ الثمنَ: قیمت گھٹانے کے لئے کہنا، کو تھوڑا پانا۔ ـــ الرجلَ: کی طرف نقصان کی نسبت کرنا۔ الناقِص جمع نُقَّص فا: درهمٌ ناقِصٌ: کم وزن کا درہم۔ النَقص (مص) کمی نقصان، لیکن نقصان دین اور عقل میں مستعمل نہیں، کہا جاتا ہے: دخل عليه نقص في دينه و عقله: اس کے دین اور عقل میں کمی ہوگئی، یہاں نقصان نہیں کہا جائیگا۔ النُقصان (مص) کمی، گھاٹا، کہا جاتا ہے: نقصه كذا و كذا: اس میں یہ یہ کمی ہے۔ النَقِيصَة جمع نقائص: کمی، خامی، کمزوری، غلطی، خطا، قصور، عیب، برائی، خرابی، نقص، کوتاہی، کمینہ خصلت۔ المَنقَصة جمع مَنَاقِص: نقصان۔ المناقصة في اصطلاح اصحاب الاعمال: کم سے کم دام کی بولی بولنے والے کے تعین کیلئے مقابلہ، عوام کو دعوت کہ وہ تعمیرات عامہ کے لئے دام (یا بولی) پیش کریں، بولی دینے والوں کے لئے اطلاع، کم سے کم دام کی بولی دینے والے کو ٹھیکہ دینا، اس کے مقابل کو المزایدہ کہتے ہیں۔ یعنی نیلامی یا نیلام عام۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ نَـقِـصَ ـُ نَقَاصَةً الماءُ: پانی کا میٹھا ہونا۔ النَقِیص: میٹھا پانی، ہر خوشبودار چیز۔

ⓒ نَـقَـصَ ہ/ ہ: کے خلاف دل پھیرنا، دل میں کے خلاف تعصب پیدا کرنا، کے مفاد کے خلاف ہونا، کو گھٹانا، کرکرا کردینا۔ نَـقُـصَ: ناقص یا ناتمام ہونا، ناکافی ہونا، عیب دار، کھوٹا، ادھورا یا غیر مکمل ہونا، ناکارہ، خراب یا نکما ہونا، کچا یا خام ہونا۔ نَقَصَهُ الشيءُ: اسے چیز کی حاجت ہوئی، درکار ہوئی، ضرورت ہوئی، وہ چیز جس کا ضرورت مند ہوا۔ ــــ عن: ضرورت سے کم ہونا یا کم پڑنا سے کم ہونا، تھوڑا یا ناکافی ہونا۔ عامًا تنقص شهرا واحدا: ایک ماہ کم تیرہ سال۔ نَـقَّـصَ و انـقَـصَ ہ: کو کم کرنا، گھٹانا، کوتاہ کرنا، ہلکا کرنا، کو پابند کرنا، جکڑنا، میں تخفیف کرنا، کو چھوٹا کرنا، مختصر کرنا، کاٹنا۔ نـاقـص ہ منصوبے وغیرہ کے لئے بولی (دام) طلب کرنا۔ تَـنَـاقَـص: بتدریج کم ہونا، آہستہ آہستہ گھٹنا، رفتہ رفتہ کم یا چھوٹا ہو جانا۔ اِنْتَـقَـصَ من قـدره: کی تحقیر کرنا، کو گھٹا کر دکھانا، کو بدنام کرنا، کو نگاہوں سے گرانا، کو ذلیل کرنا، کو کرکرا کردینا۔ اِسْتَنْقَصَ ہ کو کم کرنے کیلئے کہنا، کو کم، ناقص، ناتمام، نکما، خراب، ادھورا، نامکمل یا گھٹیا پانا، کی عدم موجودگی معلوم کرنا، کی کمی بری طرح محسوس کرنا۔ نَـقْـصٌ في: کی کمی، قلت، کمیابی۔ نَـقْـص: کمی، گھاٹا، خسارہ، ٹوٹا، نقصان، کھوٹا، ضرر، صدمہ، خلاء، وقفہ، خالی جگہ (عبارت میں) فروگزاشت، عیب، خرابی، نقص کمزوری، خامی، ادھورا پن، ناتمامی، کمتری، کہتری۔ نَـقْـصُ المواليد: شرح پیدائش کی کمی۔ مُـرَكَّـبُ نـقـص: احساس کمتری، احساس کہتری۔ نـاقِـصٌ جمع نُـقَّـص: کم، گھٹیا، غلط، نکما، خراب، ناقص، نامکمل، ناکافی بہم رسانی، ناکافی رسد، کمیاب۔ ــــ عن: سے کم۔ منقوص: خام، ادھورا، ناقص، ناتمام، نامکمل، ناکافی۔

نقض: ۱۔ نَـقَـضَ ـُ نَـقْـضًا البناءَ: عمارت کو ڈھانا۔ ــــ الحبلَ: رسی کھولنا۔ ــــ العهدَ او الامرَ: عہد یا معاملہ کو پختگی کے بعد خراب کرنا عہد توڑ دینا کہا جاتا ہے: نَـقَـضَ فـلانٌ وِتْرَهُ: فلاں شخص نے اپنا انتقام لے لیا۔ نَقَضَ الارضَ: زمین کی مٹی کو جدا جدا کرنا۔ ــــ الكمءُ: پھٹی ہوئی کھمبی کا چھلکا اترنا۔ نَـاقَضَ مُنَاقَضَةً و نِـقَـاضاً قولهُ الثاني قولهُ الاوّلَ: کا دوسرا قول پہلے قول کے مخالف ہونا۔ اَنْـقَضَ الكمءُ: بمعنی نَقَضَ الكمءُ، الحَمْلُ الظَهْرَ: بوجھ کا پیٹھ کو بوجھل کرنا۔ ــــ الكـماةَ و عن الكماةِ: سانپ کی چھتری کو زمین سے نکالنا۔ تَـنَـقَّـضَ الحبلُ: رسی کا بل کھل جانا۔ ــــ الدمُ: خون کا ٹپکنا۔ ــــ الجرحُ: زخم سے خون بہنا۔ ــــ ت الارضُ عن الكمأة: زمین کا پھٹ کر سانپ کی چھتری نکالنا۔ تَـنَـاقَـضَ البـنـاءُ او الـحبـلُ: عمارت کا ترخنا۔ رسی کا کھلنا۔ ــــ القـولان: دو قولوں کا ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔ تـنـاقضا البيعَ: دو کا بیع کو آپس میں توڑنا۔ اِنْتَقَضَ البنـاءُ او الحبلُ: عمارت کا ترخنا، رسی کا کھلنا۔ ــــ الجـرحُ بـعدبر ئه: زخم کا اچھا ہونے کے بعد خراب ہو جانا۔ ــــ الامرُ بعد اِلْتِنَامِهِ: معاملہ کا سدھرنے کے بعد بگڑ جانا۔ ــــ ت الطهارةُ: طہارت کا باطل ہونا، نہ رہنا، کہا جاتا ہے: اِنْتَـقَـضَ عليه البلدُ: اہل شہر اس کی اطاعت سے نکل گئے، باغی ہو گئے۔ الـنَّـقْـض (مصدر) مُفَاعَلَتُن کے ساتویں حرف کو حذف کر کے پانچویں کو ساکن کرنا یعنی نون حذف اور لام کو ساکن کرنا، اس طرح وہ مفاعیل ہو جائے گا۔ الـنِّـقْـض: دوبارہ کاتا ہوا خیمہ یا کمبل۔ النِـقْـض جمع اَنْـقَاض و نُقُوض: عمارت کا ملبہ۔ دبلی اونٹنی یا اونٹ جو سفر کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں۔ زمین کی پپڑی جو سانپ کی چھتری وغیرہ سے پھٹ جائے۔ دوبارہ کاتا ہوا خیمہ یا کمبل۔ الـنُـقْـض جمع اَنْـقَـاض و نُقُوض: عمارت کا ٹوٹا ہوا حصہ۔ الـنُّـقَـض: ایک قسم کی کشتی، کشتی کا ایک پیچ۔ النَقْضَة: نَقْض کا اسم مرۃ۔ ــــ عند الـنـجـارين: شہتیر (جس سے چھت ڈالی جاتی ہے) النِـقْـضَة جمع اَنـقَاض: علیحدہ کیا ہوا جدا کیا ہوا، الگ الگ کیا ہوا، توڑا ہوا، چلنے کی وجہ سے کمزور جانور۔ ناقة نقضة: کمزور اونٹنی۔ النُقَاضَة: بالوں کی رسی کی کھلی ہوئی لڑیاں۔ الـنَـقِـيـض م نَـقِـيـضَة: مخالف برعکس (فـلانٌ هو نقيضُك: فلاں شخص تمہارا مخالف ہے یا تمہارے برعکس ہے) پہاڑی راستہ، ہر چیز کا رفع وعکس، جب ہم کہتے ہیں کہ كـلُّ انـسـان حيـوان بـالضرورة: ہر انسان لازمی طور پر حیوان ہے۔ تو اس کا برعکس (الٹ) یہ ہے انه لـيس كذلك: وہ ایسا نہیں ہے۔ الـنـقـيـضـان: دو ایسی متضاد چیزیں جن کا اجتماع ناممکن ہو۔ النَقِيضَة جمع نَقَائِض: مناقضہ کا اسم، نمایاں فرق۔ ــــ في الشِعر: وہ نظم جو نظم کے جواب میں ہو۔ کہا جاتا ہے۔ هـذه القصيدة نقيضة قصيدة فلان: یہ وہ نظم ہے جس کے ذریعہ فلاں کے نظم کا اثر باطل کیا گیا ہے۔ اسی سے جریر اور الفرزدق (دو شاعروں) کے نقائض ہیں۔ الـتَـنَـاقُـض (ہ): باہم [illegible] کا [illegible] اس کی باتوں میں تضاد ہے۔

۲۔ نَـقَـضَ ـُ نَـقْـضًا العظمَ: ہڈی کو توڑنا۔ ــــ نَقْضًا الـمـفـصـلُ و الاديمُ و نحوهما: جوڑ، چمڑے وغیرہ کا چرچرانا۔ آواز کرنا۔ اَنْـقَضَ بالمعز: بکری کو بلانا۔ ــــ ت العقابُ: عقاب کا آواز نکالنا۔ ــــ اصـابـعَهُ: انگلیوں سے مار کر آواز نکالنا۔ تَـنَـقَّـضَ البيتُ: گھر کا چٹخنا، چٹکنا۔ ــــ تْ عِظامُهُ: کی ہڈیوں سے آواز نکلنا۔ النـقيض من الادم و الـرَحْـل و الـوَتَـر و الاصابع و الاضلاع و المفاصل وغيرها: چمڑے، کاٹھی، تانت، انگلیوں، پسلیوں اور جوڑوں وغیرہ کی آوازیں۔ چوزے، بچھو، مینڈک، عقاب اور شتر مرغ وغیرہ کی آواز۔ نـقـيـض السقف: چھت کی لکڑی کی چرچراہٹ۔

ⓒ نَـقَـضَ ـُ نَقْضًا ہ کو برباد کرنا، گرانا، پھاڑ ڈالنا، کا الٹ کرنا، کا اثر باطل کرنا (عہد وغیرہ) توڑنا، کی خلاف ورزی کرنا، کی بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنا، کو منسوخ کرنا، کالعدم قرار دینا، ختم کرنا (شک وشبہ) کو کالعدم قرار دینا، غلط ثابت کرنا، کی تردید کرنا (سزا کے حکم کو) کالعدم قرار دینا، منسوخ کرنا رخ بالکل بدل دینا۔ نـقـض الـولاءَ: اطاعت، فرمانبرداری یا انقیاد سے دستبردار ہو جانا، (کو) چھوڑ دینا، (سے) بغاوت کرنا۔ لا يُـنْـقَـضُ: ناقابل تردید، اٹل، ناقابل تنسیخ، نَـاقَضَ ہ: کے موافق نہ ہونا، سے متضاد ہونا، کے برخلاف یا برعکس ہونا، کے علی الرغم ہونا، کے مقابل یا بالمقابل ہونا، کے الٹ ہونا، کی تردید کرنا، سے بے میل یا بے جوڑ ہونا، تَنَقَّضَ: برباد ہونا، منہدم ہونا، پھٹنا، تباہ ہونا، توڑا جانا، خلاف ورزی کیا جانا، کا الٹ کیا جانا، کا اثر باطل کیا جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ختم ہونا، زوال میں آنا، گرنا، برباد ہونا، غائب یا کافور ہو جانا نظروں سے اوجھل ہو جانا، خراب ہو جانا، گھس جانا، آہستہ آہستہ غائب ہو جانا، ختم ہو جانا، مرجانا، فنا ہو جانا۔ تَـنَـاقَـضَ: ایک دوسرے کی تردید کرنا، کے الٹ یا برعکس ہونا، یا باہم کم آمیز ہونا، مخصوص ہونا۔ انتـقـض: برباد ہونا، منہدم ہونا، تباہ ہونا، توڑا جانا، خلاف ورزی کیا جانا، الٹ کیا جانا، کا اثر باطل کیا جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، خراب ہو جانا، آہستہ آہستہ غائب ہو جانا، ختم ہو جانا، مرجانا، فنا ہو جانا، ــــ علی: کے خلاف بغاوت کرنا، پر حملہ کرنا، سے لڑائی شروع کرنا۔ نقضُ الحكم: سزا کے حکم کا الٹ کرنا، نَـقْـضُ السلام: امن شکنی نقض امن۔ مـحـكـمة النقض و الإبرام: عدالت تنسیخ۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لایجوز نقضهُ: یہ (سزا کا حکم) ناقابل تنسیخ ہے، ناقابل تغیر ہے، نظرثانی کے ناقابل ہے۔ ضابطہ کیمطابق ہے۔ قطعی ہے، اس کے خلاف اپیل نہیں ہوسکتی۔ حقُّ النقض: ویٹو کرنے کا حق۔ اَنقاض (نُقض کی جمع) ملبہ، ٹوٹے ہوئے، اینٹ پتھر، روڑے، کنکر۔ علی نقیض: کے خلاف، مخالف، سے متضاد، مختلف، علی النقیض: نہیں بلکہ، اس کے برعکس، اِنتقل من النقیض اِلی نقیضہ: ایک انتہاء سے دوسری انتہاء تک جانا، انتہائی قدم اٹھانا۔ تناقض: باہمی تضاد، عکس، تباین، تخالف۔ انتقاض: انہدام، بغاوت۔ منقوض: تباہ شدہ، منہدم شدہ، ٹوٹا ہوا، خلاف ورزی کیا ہوا۔ الٹ کیا ہوا، اثر باطل کیا ہوا، منسوخ کیا ہوا، قابل تردید، غلط ثابت کرنے کے قابل۔ مُناقِض: متضاد، مخالف، عکس، الٹ، بے میل، بے جوڑ۔ مُناقِضُ ذاتہٗ: اپنی ذات کی تردید کرنے والا، خود تردیدی۔ مُتَناقِض: باہم متضاد، باہم تردیدی، باہم دگر آویزان، باہم الٹ، جمع متناقِضات: تخالفات، تباینات، تضادات، نمایاں فرق، تناقضات، مخالفتیں، عداوتیں، اختلافات۔

نقط: ۱۔ نقط ــــ نُقطا الحرفَ: حرف پر نقطے لگانا صفت۔ فاعلی نقّاط: صفت مفعولی۔ (یعنی حرف) مَنقُوط۔ نَقَّطَ الحرفَ: حرف پر نقطے لگانا۔ ــــ ثوبَہُ بالمدادِ او الزعفرانِ: کپڑے پر روشنائی یا زعفران کے نقطے لگانا، عام لوگ کہتے ہیں: نقط الاناءُ: برتن ٹپکا۔ نقط العروسَ: شادی پر دلہن کو تحفہ دینا۔ تنقط المکانُ: جگہ میں گھاس کے مختلف قطعے واقع ہونا۔ ــ فلانٌ الخبرَ: آہستہ آہستہ خبر لینا۔ تنقطتُ الخبزَ: میں نے آہستہ آہستہ یا تھوڑی تھوڑی کر کے روٹی کھائی۔ النقطۃ جمع نقط ونِقاط: نقطہ: چھوٹی گیند جیسی علامت جو حروف پر اور ان کے نیچے لگائی جاتی ہے تاکہ ان کی تمیز کی جاسکے جیسے باء (ب) جیم (ج) خا (خ) اور کلام میں پہلی عبارت کو الگ کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے جس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ــ فی الھندسۃ: نقطہ جس کی لمبائیاں نہ ہوں۔ کہا جاتا ہے۔ نِقاطٌ او نقط من الکلاء: گھاس کے متفرق قطعے۔ ما اختلفوا فی نُقطَۃٍ: انہوں نے کسی معاملہ یا مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا اور یہ موافقت پر زور دینے کیلئے کہا جاتا ہے۔ نقطۃ الدائِرۃ: دائرہ کا مرکز۔ النقطۃ (ب): پتھر وغیرہ جو لیور (lever) کے سرے کے نیچے اس لئے رکھا جائے کہ جس چیز کو اٹھانا مقصود ہو اسے آسانی سے اٹھایا جاسکے۔ پانی یا خون کا قطرہ۔ داءُ النُقطَۃِ (طب): مرگی۔ النقطَۃ: نقط کا اسم مرۃ النُقوط: شادی میں دیئے جانے والے تحفے۔ المنقوط (مفع) ــ من الشِعر: وہ شعر جس کے تمام حروف نقطے والے ہوں۔ کتاب مَنقُوط: اعراب لگی ہوئی کتاب۔

۲۔ نَقَطَ ــ نُقطًا و نَقَّط بہ الزمانُ: زمانہ سے موافق ہونا۔

۳۔ الناقِط والنقیط: غلام کا غلام۔

○ نقّط ہ: پر دھبے ڈالنا، کو بدرنگ کرنا،، پر نقطے ڈالنا، کو نقطے لگانا، کو ٹپکانا، ٹپکانا، آہستہ کرنا، کم کرنا۔ ــــ ہ / ب علی: کو تحفے کے طور پر کوئی چیز دینا۔ ــ ھا: دلہن کو شادی کا تحفہ دینا، نقطۃ: نقطہ، فل سٹاپ، قطرہ، ذرہ، ذرہ بھر، ذرا سا۔ (موٹر اور مشینوں کا) پرزہ، معاملہ، نقطہ، تفصیل، شق، جگہ، گاؤں، کھیڑا، قصبہ (جس میں منڈی ہو) شاخ، چوکی، (فوجی) صدر جہاں سے مسلح افواج کو رسد بھیجا جاتا ہے۔ پوزیشن، فوجی چوکی، شادی کا تحفہ النقطتان: کولن Colon (:)۔ نقطۃ الاتصال: جنکشن، مقام اتصال۔ نقطۃ الارتکاز: قلعہ بند مورچہ۔ گھرا ہوا علاقہ جہاں سے مزاحمت کی جاتی ہے۔ نقطۃ اساسیہ: کلیدی پوزیشن۔ نقطۃ الاستفھام: سوالیہ نشان (؟) نقطۃ الاطفاء یا نقطۃ المطافی: آگ بجھانے کا مرکز (Firestation) نقطۃ البولیس: پولیس اسٹیشن تھانہ۔ نقطۃ التحول: مڑنے کی جگہ۔ نقطہ انقلاب، واقعات کا پلٹا یا تبدیلی، مدوجذر کا دورہ۔ نقطۃ جُمرُکیۃ: کسٹم سٹیشن یا ہاؤس۔ نقطۃُ الذنب: اجرام فلکی کے مدار کا وہ مقام جب وہ سورج سے بہت دور ہوتے ہیں (Aphelion)۔ نقطۃ الراسِ: کسی سیارے کا وہ نقطہ جو سورج سے قریب تر ہو (Peri-he-lion) نقطۃ القتال: لڑائی کا علاقہ، کارروائی کا علاقہ، داءُ النقطہ: مرگی (epilepsy) فوز بالنقط: (کھیل میں) پوائنٹس پر کامیابی۔ نُقوط: دلہن کو شادی کا تحفہ۔ نَقّاطۃ: ڈراپر (Dropper) فصلۃ منقوطۃ: وقفِ ناقص یعنی کولن Semi colon (؛)

نقع: ۱۔ نقع ــ نَقعًا ریقَہٗ: منہ میں تھوک جمع کرنا۔ ــ الدواءَ وغیرہٗ فی الماء: دواء وغیرہ کو پانی میں رکھنا۔ ــ الرجُلُ: مہمانوں کے لئے جانور ذبح کرنا۔ ــ فلانًا: کو قتل کرنا۔ ــ الموتُ: موت زیادہ ہونا۔ ــ بالشراب: شراب سے شفا پانا۔ ــ نقوعًا السمّ فی انیاب الحیّۃ: سانپ کے دانتوں میں زہر جمع ہونا۔ ــــ من الماء و بہ: پانی سے سیراب ہونا۔ مانقعتُ بخبرہ: میں نے اس کی خبر کی تصدیق نہیں۔ ــ نَقعًا و نُقوعًا الماء فی بطن الوادی: پانی کا وادی میں جمع ہو کر بہت دیر ٹھہرنا۔ ــ الماءُ العطَشَ: پانی کا پیاس کو بجھانا۔ انقع الدواء وغیرَہ فی الماء: دواء وغیرہ کو پانی میں رکھنا۔ ــــ ت الحیۃُ السمَّ فی اَنیابھا: سانپ کا زہر کو اپنے دانتوں میں جمع کرنا۔ ــ المیتَ: میت کو دفن کرنا۔ ــ لفلان شرًا: کے لئے شر دل میں چھپانا۔ ــــ الرجُلُ: مہمانوں کے لئے جانور ذبح کرنا۔ ــ الماءُ فلانا: کو پانی کا سیراب کرنا۔ ــ العَطَشَ: پیاس بجھنا۔ اِنتقع النقیعۃَ: مہمانی کیلئے جانور ذبح کرنا۔ ــــ القوم نقیعۃً: تقسیم سے پہلے غنیمت کے کسی جانور کو ذبح کرنا۔ اِستَنقَعَ فلانٌ فی النھر: نہر میں گھس کر دیر تک اس میں نہانا۔ ــــ الماءُ فی الغدیر: پانی کا تالاب میں جمع ہونا۔ الناقِع فا، سمٌّ ناقِع: زہر قاتل۔ دم ناقِع: تازہ خون۔ دواء ناقِع: فائدہ مند دواء۔ النقع (مص) جمع انقع: جمع شدہ پانی۔ ــ جمع نِقاع و انقع: نرم زمین جس میں پانی جمع ہو، ہموار اور نشیبی زمین، پانی ٹھہرنے کی جگہ۔ نقع البئر: کنویں میں جمع شدہ پانی، کنویں کے پانی کی زیادتی۔ النقاع: خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن۔ النقاعۃ: وہ پانی وغیرہ جس میں کوئی چیز بھگوئی جائے۔ النقعاء جمع نقاع: دلدلی زمین۔ النقوع: پانی میں بھگوئی جانے والی چیز، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ خشک خوبانی، ایک رنگ جس میں خوشبو پڑی ہو۔ فلانٌ نقوعُ اذنٍ: فلاں شخص ہر بات مان لیتا ہے۔ النقیع جمع انقِعۃ: بھگوئی ہوئی خشک انگور کا شربت، ہر وہ چیز جس میں کھجور بھگوئی جائے، ٹھنڈا میٹھا پانی۔ بہت پانی والا کنواں۔ دواء نقیع: فائدہ مند دواء۔ النقیعۃ جمع نَقائِع: سفر سے آنے والے کے لئے بنایا جانے والا کھانا، مہمان کے لئے ذبح کیا ہوا جانور۔ الناسُ نقائِع الموت: موت لوگوں کو ذبح کرنے والی ہے۔ الانقع: زیادہ پیاس بجھانے والا۔ کہا جاتا ہے۔ الرشف انقع: تھوڑا تھوڑا کر کے پینا پیاس کو بجھاتا ہے، یہ جملہ جلد بازی ترک کرانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ الانقوعۃ: ہر ایسی جگہ جس کی طرف پانی بہہ کر آئے۔ اُنقُوعۃ المیزاب: پرنالہ پر کی نالی۔ المستنقع: دلدل، تالاب کا گھاٹ۔ المَنقع جمع مَناقِع: سمندر، پانی جمع ہونے کی جگہ۔ آبپاشی۔ المِنقع: وہ برتن

جس میں کوئی چیز بھگوئیں۔ اَلْمُنْقَع: مٹکا، پتھر کا پیالہ، بھگونے کے قابل چیز، خالص سرد کیا ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُنْقَعٌ: فلاں کی رائے سے تسلی ہو جاتی ہے۔ سمٌّ مُنْقَعٌ: مربی۔ المُنْقُعُ: چھوٹی ہانڈی جس میں دودھ کھجوریں بچے کے کھانے کے لئے ڈالی جاتی ہیں۔ المِنْقَعَة: خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن۔ والمَنْقَعَة: چھوٹی ہانڈی جس میں دودھ کھجوریں بچے کے کھانے کے لئے ڈالی جاتی ہیں۔

۲۔ نَقَعَ ـَ نَقْعًا: آواز بلند کرنا ــ فلانًا بالشتم: کو بری بری گالیاں دینا۔ ــ نُقوعًا الصوتُ: آواز کا بلند ہونا۔ ــ الصارخُ بصوته: چیخنے والے کا مسلسل چلانا۔ انتقع الصارخ بصوته: چیخنے والے کا مسلسل چلانا۔ استنقع الصوتُ: آواز بلند ہونا۔ النَّقْعاء جمع نِقاع: آواز۔ النقاع: مبالغہ کا صیغہ۔ ان فصیلوں کا مدعی جو اس میں نہ ہوں۔ النقیع: چیخ۔

۳۔ نَقَعَ ـَ نَقْعًا الجیبَ: گریبان چاک کرنا۔

۴۔ اُنْقِعَ الماءُ: پانی کا متغیر ہو کر زرد رنگ ہو جانا۔ اُنْتُقِعَ لونُهُ: غم اور گھبراہٹ سے رنگ بدل جانا۔ اِسْتُنْقِعَ الماءُ: پانی کا متغیر ہو کر زرد رنگ ہونا۔

۵۔ النَّقْعُ: مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ۔ ــ جمع نِقاع ونُقوع: گرد وغبار۔ النَّقْعاء جمع نِقاع: گرد وغبار۔ النقیع: وہ شخص جس کی ماں غیر قوم سے ہو۔

○ نَقَعَ ـَ نَقْعًا ه فی: میں کوئی چیز بھگونا ــ ه: پیاس بجھانا، چائے وغیرہ: بھگونا، چائے بنانا۔ ــ پانی کا تالاب میں بند ہونا۔ اَنْقَعَ ه: کو سیال شے میں بھگونا، بھگو کر نرم کرنا، پیاس بجھانا، استنقع: پانی کا بند ہونا، کھڑا رہنا، اور اس وجہ سے گندہ ہو جانا، زمین کا دلدلی ہونا۔ نَقْع: بھگو کر نرم کرنا۔ بھگونا جمع اَنْقُع: کھڑا پانی۔ دلدل۔ جمع نِقاع ونقوع: گرد وغبار۔ نَقاعة: نچوڑ، زلال۔ جوشاندہ۔ نقیع: بھگوئی ہوئی بھر جانے والی یا سرایت کرنے والی چیز۔ پانی میں بھگوئے ہوئے خشک پھلوں کا رس۔ نُقُوع: خشک پھل، خشک خوبانیاں۔ مُنْقَع جمع مَناقِع: دلدل، جگہ جہاں پانی جمع ہو جائے۔ منقع الدم: پھانسی گھر۔ مَنْقُوع: نرم کرنے کے لئے بھگوئی ہوئی، بھگوئی ہوئی چیز۔ نچوڑ، زلال، جوشاندہ۔ مُسْتَنْقَع جمع مُسْتَنْقَعات: دلدل، نشیبی داخلی علاقہ۔ حُمَّى المُسْتَنْقَعات: ملیریا، دلدلی بخار۔

نقف: ۱۔ نَقَفَ ـُ نَقْفًا هامةَ الرجلِ: کی کھوپڑی توڑنا۔ ــ فلانًا: کو ہلکی ضرب لگانا۔ ــ الفرخُ البیضةَ: چوزے کا انڈہ پھوڑ کر نکلنا ــ عن الشئ: کی تفتیش کرنا۔ الرمّانة: انار کو دانے نکالنے کے لئے چھیلنا۔ ــ الشرابَ: شراب کو صاف کرنا۔ اس میں پانی ملانا۔ ــ الحنظلَ ونحوهٗ: اندرائن کو پھاڑ کر دانے نکالنا صفت فاعلی ناقف۔ الحنظل نقیف ومنقوف ــ هٗ بظفره: کو ناخن سے چٹکی بھرنا۔ ــ هٗ بحصاة: کو کنکر مارنا۔ ناقَفَ مُناقَفةً و نِقافًا: ایک دوسرے کی کھوپڑی پر تلوار مارنا۔ انْقَفَ فلانًا العظمَ: کو ہڈی گودا نکالنے کے لئے دینا۔ الجرادُ الوادي: ٹڈی کا وادی کو انڈوں سے بھر دینا، وادی میں ٹڈی کے انڈوں کی بہتات ہونا۔ الحنظلَ: دانے نکالنے کے لئے اندرائن کو توڑنا، پھوڑنا۔ تَنَقَّفَ الحنظلَ: دانے نکالنے کے لئے اندرائن کو توڑنا۔ انتقف الحنظلَ: اندرائن توڑ کر دانے نکالنا۔ ــ الشئَ: کو نکالنا۔ النِقف والنَقَف: وہ چوزہ جو ابھی انڈے سے نکلا ہو۔ النَقَفة: پہاڑی کی چوٹی یا ٹیلہ پر چھوٹا گڑھا۔ النِقاف: مص: رجلٌ نِقافٌ: مدبر اور صاف نظر مرد، دور اندیش کہا جاتا ہے: جاءا في نِقافٍ واحدٍ: وہ دونوں برابر برابر چلتے ہوئے آئے۔ الیومَ قِحافٌ وغدًا نِقافٌ: آج شراب پینے کا اور کل کام کرنے کا دن ہوگا۔ النَّقّاف: لکڑی کاٹنے والا، لکڑی سے چیزیں بنانے والا، پکا گداگر، سوال کرنے کا شوقین اور عادی۔ رجلٌ نقّافٌ: دور اندیش مرد۔ النَّقّافة: سوال کرنے کی شوقین اور عادی۔ النَّقیف جمع نُقُفٌ: دیمک کا کھایا ہوا تنا۔ المِنْقاف: پرندہ کی چونچ۔ المَنْقوف (مفع): زرد رنگ دبلے پتلے چہرے اور کم گوشت والا، کمزور۔ جذعٌ منقوف: دیمک خوردہ تنا۔ عینان مَنْقُوفَتان: سرخ آنکھیں۔

۲۔ المِنْقاف: ایک قسم کی کوڑی جو پالش کے کام آتی ہے۔

○ نُقف ونِقف: چوزہ۔

نقل: ۱۔ نَقَلَ ـُ نَقْلًا الشئَ: کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنا۔ ــ الکلامَ عن قائله: قول قائل سے روایت کرنا۔ ــ الکتابَ: کتاب نقل کرنا۔ ــ الکتابَ إلى لغة كذا: کتاب کا کسی زبان میں ترجمہ کرنا۔ ــ خفَّ البعیر او الثوبَ او النعلَ: اونٹ کے کھر یا کپڑے یا جوتے کو پیوند لگانا اور درست کرنا۔ نَقَّلَ الشئَ: چیز کو زیادہ منتقل کرنا۔ ــ فلانٌ ضیفه: مہمان کو پستہ سیب وغیرہ کھلانا۔ ــ الخفَّ او الثوبَ: اونٹ کے کھر یا کپڑے کو پیوند لگانا۔ تشدید مبالغہ کیلئے ہے۔ ــ تِ الشجّةُ العظمَ: زخم کا ہڈی کو توڑ ڈالنا۔ ناقَلَ الفرسُ: گھوڑے کا جلدی جلدی پاؤں اٹھانا، پتھروں سے بچ کر ہوشیاری سے دوڑنا۔ ــ تُ فلانًا: میں نے فلاں سے شراب چھیننے کی کوشش کی۔ ــ الشاعرُ الشاعرَ: شاعر کا شاعر کی مخالفت کرنا۔ ــ هٗ الاقداحَ: ایک کا دوسرے کو پیالے دینا اور لینا۔ ناقلتُهٗ الحدیثَ: ایک دوسرے کو روایت سنانا۔ اَنْقَلَ الخفَّ او النعلَ: اونٹ یا گھوڑے کے کھر کی اصلاح کرنا۔ تَنَقَّلَ: زیادہ منتقل ہونا ــ من مکان إلى آخر: ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہونا۔ ــ الرجلُ: نقل کھانا (نقل بادام سیب وغیرہ کو کہتے ہیں) تناقلوا الحدیثَ فیما بینهم: ایک دوسرے سے حدیث روایت کرنا اور اس کے لئے ایک دوسرے کا حریف ہونا۔ اِنْتَقَلَ مِن مکان إلى آخر: ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہونا۔ نقل مکانی کرنا۔ ــ فلانٌ إلى رحمة الله او إلى رضوانه: مرجانا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا چلنے میں پچھلے پاؤں کو اگلے پاؤں کی جگہ رکھنا۔ النّاقِل جمع ناقِلون ونَقَلَة: فا۔ النّاقِلة جمع نَواقِل: ناقل کا مونث، ــ من الناس: نقل مکانی کے عادی لوگ۔ نَواقِلُ الدهر: حوادث زمانہ۔ نَواقِلُ العرب: ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں منتقل ہو کر اس کی طرف اپنی نسبت کرنے والا۔ النَّقْل (مص): پرانا جوتا یا موزہ۔ کہا جاتا ہے۔ (نعلٌ نَقْلٌ و خفٌّ نَقْلٌ: پرانا جوتا اور پرانا موزہ) مختصر راستہ۔ وہ چیز جو شراب کے ساتھ استعمال کی جائے جیسے پستہ، سیب وغیرہ۔ کبھی ضمّہ کے ساتھ آتا ہے یعنی کہا جاتا ہے نُقْل جمع نُقول ونُقولات۔ ــ عند اهل العربیة: لفظ کو ایک معنی کے لئے وضع کرنے کے بعد پھر اس کو دوسرے معنی کے لئے وضع کرنا۔ النِّقْل: پرانا جوتا یا موزہ۔ گھوڑے یا اونٹ کا پرانا کھر، سم۔ رجلٌ نَقِلٌ: حاضر جواب، جھگڑالو آدمی۔ مکانٌ نَقِلٌ: چھوٹے چھوٹے پتھروں کی جگہ۔ النَّقَل: ایک تیر سے نکال کر دوسرے تیر میں لگایا ہوا پر۔ (کہا جاتا ہے: لاترش سهمي بنَقَلٍ: میرے تیر کو دوسرے تیر کا پر نہ لگاؤ) شور وشغب کے ساتھ جواب۔ گری ہوئی عمارت کا ملبہ۔ چھوٹے پتھر، مختصر راستہ۔ ــ جمع اَنْقال و نِقال: پرانا جوتا یا موزہ۔ النَّقْلة: نقل کا اسم مرہ۔ نِقال کا واحد النُّقْلة جمع نُقَل: انتقال، چغلی۔ النِّقلة جمع نِقَل: نقل کا اسم نوع۔ النِّقال (مصدر ناقَلَ) چوڑے چھوٹے جوتے۔ یا نیزے کے چوڑے چھوٹے پھل واحد نَقَلة: اونٹوں کا اپنے آپ پینا، کہا جاتا ہے شربت الابل نِقالًا: اونٹوں نے خود پیا۔ النَّقّال: مبالغہ کا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

صیغہ: چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا۔ فرسٌ نَقَال: تیز رو گھوڑا۔ النَقِیل: بارش کی زمین سے خشک زمین میں آنے والا سیلاب، نعل بند، مختصر راستہ۔ نووارد مرد۔ نووارد عورت۔ رجُلٌ نقیل: نووارد مرد۔ ھذا فرسٌ ذو نقیل: یہ تیز رو گھوڑا ہے۔ النَقِیلة جمع نَقَائِل و نقِیل: نووارد عورت۔ جوتے اور موزہ کا پیوند المَنْقَل: پرانا جوتا یا موزہ مختصر راستہ، پہاڑی راستہ۔ چولہا (Stove) فرسٌ مُنَاقِل و مِنقَل: تیز رو گھوڑا۔ المَنْقَلَة: سفر کی ایک منزل۔ اونٹ وغیرہ کے موزے کا پیوند۔ ارضٌ مُنْقَلَة: چھوٹے چھوٹے پتھروں والی زمین۔ المِنْقَلَة جمع مَنَاقِل: سٹریچر، ایک قسم کا کھیل۔ المُنَاقَلَة: ایک دوسرے سے حدیث کی روایت۔

۲۔ النِقْلة جمع نِقَلٌ: عورت جس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے شادی کے پیغام نہ آئیں۔

○ نَقَلَ ـــ نُقْلاً ہ: کو اس کی جگہ سے بدلنا، ادھر ادھر کر دینا۔ ہ اِلی: کو تک لیجانا۔ ـ ہ/ ہ من ـ اِلی: کو سے تک منتقل کرنا۔ ـــ ہ اِلی: کو کے سپرد کرنا۔ ـــ ہ: کو برخاست کر دینا۔ ـ الی: سے تک متحرک ہونا، کسی جگہ جانا، منتقل ہونا۔ ـ من: سے نقل کرنا۔ ـ من ـ الی: ایک زبان سے دوسری میں ترجمہ کرنا۔ ـ عن: مصنف یا تصنیف کا حوالہ دینا، ـــ ہ: (متن) پیش کرنا۔ ـــ ہ: کھاتہ نویسی میں کسی مد کو درج کرنا۔ ہ اِلـی: تک بیماری پھیلانا۔ ـ الی ہ: کو چھوت لگانا۔ ـ ہ الی: کو کوئی چیز خصوصاً حق منتقل کرنا۔ نَقَّل ہ: کو ادھر ادھر کرنا، کو یکے بعد دیگرے اس کی جگہ سے بدلنا آگے لیجانا، منتقل کرنا۔ نَقَّلَ خُطاہ: لمبے لمبے قدم اٹھانا۔ ڈگ بھرنا۔ نَاقَلَ ہ ہ: سے الفاظ یا باتوں کا تبادلہ کرنا، پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، سے کی رپورٹ کرنا، کو کی رپورٹ دینا، کو سے مطلع کرنا، کو کچھ دینا۔ تَنَقَّل: لیجایا جانا، منتقل کیا جانا (ریڈیو سے) نشر ہونا، جائے سکونت تبدیل کرنا، نقل مکانی کرنا۔ مورچہ تبدیل کرنا، ادھر ادھر متحرک ہونا، گھومنا پھرنا، ترک وطن، ہجر کرنا، سفر کرنا۔ تَنَاقَل ہ: کو لیجانا، کی نقل وحمل کا انتظام کرنا، کے متعلق ایک دوسرے کو رپورٹ کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، کا تبادلہ کرنا، کو پھیلانا، بیان کرنا، گزارنا، حوالے کرنا، دینا، زبانی پھیلانا۔ تناقلتہُ الالسن: ایک منہ سے دوسرے منہ تک پہنچنا، ہر ایک کی زبان پر ہونا، شہر میں چرچا ہونا۔ تناقلتہُ الایدی: ایک سے دوسرے ہاتھ تک پہنچنا، ہاتھوں ہاتھ پہنچنا۔ تناقلت الجرائدُ الخبرَ: پورے پریس نے خبر شائع کی۔

تَنَاقَلَ الکلامَ: ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ اِنْتَقَل: لیجایا جانا، منتقل ہونا، منتقل کیا جانا، پہنچایا جانا (ریڈیو) سے نشر ہونا، نقل مکانی کرنا، کسی دوسری جگہ چلے جانا، مورچہ بدلنا (فوج کا) ادھر ادھر ہونا، گھومنا، ہجرت کرنا، ترک وطن کرنا، ادھر ادھر سفر کرنا، بھٹکنا، (اہلکار کی) تبدیلی ہونا، (جہاز کا) خطرے سے نکالا جانا، بچایا جانا، منتقل کیا جانا، سونپا جانا (بیماری کی) رسائی ہونا۔ ـــ اِلی: تک پھیلنا (افواہ) کا پھیلنا، منتقل ہونا، سفر کرنا، کو روانہ ہونا، کو جانا، کی جانب بڑھنا، کا رخ کرنا، کی طرف مڑنا (گاڑی کا) ـ من الی: ایک مالک سے دوسرے کے پاس منتقل ہونا (لہروں کا) پھیلنا۔ ـ حملہ سے دفاع پر آجانا۔ ـــ من / عن: سے دور چلا جانا، روانہ ہونا، رخصت ہونا، ـ فی: میں ادھر ادھر جانا، کا دورہ کرنا، یکے بعد دیگر جانا۔ انتقل بہ اِلی: کو کوئی چیز منتقل کرنا۔ انتقل الی جوار ربہ: مر جانا، اپنے رب کے حضور پہنچ جانا۔ نقل: ٹرانسپورٹیشن، ٹرانسپورٹ، انتقال، ترسیل، ایصال، پہنچانا، اٹھا کر لیجانا، ڈھونا، بار برداری، قمالی، نقل وحمل، ذریعہ نقل و حمل۔ (اہلکار کا) تبادلہ، رہائش کی تبدیلی، منتقلی، ہٹانا، اٹھانا، ترسیل، ابلاغ، نشریہ۔ نَقْل: ترجمہ، روایت، رپورٹ، سرگزشت، اندراج، کھاتے میں درج کرنا، تندہی، انتقال، علاقہ یا حقوق دوسرے کے سپرد کرنا۔ نقلاً عن: کی بنا پر، کے مطابق، نقل الدم ونقل الدماء: انتقال خون۔ نقل الصور بالاسِلکی: ریڈیو فوٹوگرافی، نقل میکانیکی: موٹر ٹرانسپورٹ (مسافر اور سامان کی) اجرة النقل: چھکڑے کا کرایہ، بار برداری کا خرچ، جہاز کا کرایہ، اسباب کا محصول۔ سیَّارَة النقل: ٹرک، لاری۔ مَعَالِیمُ النقل: منتقلی کی فیس، وسائل النقل: ذرائع نقل و حمل، گاڑیاں۔ سیارة نقلیة: ٹرک لاری۔ نقلیات: نقل وحمل کی خدمات، نظام نقل وحمل، نقل وحمل، سواریاں، گاڑیاں۔ نقلیات عسکریہ: فوجی گاڑیاں۔ نَقْل ونُقْل جمع نُقُول: خشک پھل، چینی کے قوام میں رکھی ہوئی چیزیں جیسے بادام وغیرہ، کھانڈ کی مٹھائیاں، ٹافیاں جو کھانے کے بعد کھائی جاتی ہیں۔ نَقَل: ملبہ۔ نُقْلة: ترک وطن، ہجرت۔ نقلة جمع نُقَل: گپ شپ۔ دوسروں کے متعلق افواہیں۔ نمونہ، نقش، ماڈل۔ نقّال: آسانی سے اٹھایا جاسکنے والا، سفری، آسانی سے لیجایا جاسکنے والا۔ نَقَّالَة جمع نَقَّالات: سٹریچر، ایمبولینس، گاڑی، ٹرک، لاڑی۔ نقیل: پہاڑی پگڈنڈی، درہ۔ گھاٹی مَنْقَل ومَنْقَلة جمع مناقِل: انگارہ دان۔ مَنْقَلَة: ایک دن کا سفر، راستہ میں ٹھہرنے کا مقام۔ پروٹریکٹر۔ ڈی (D) زاویہ پیا۔ طورُ الانتقال: عبوری دور۔ فترةُ الانتقال: درمیانی وقفہ، عید انتقال العذراء: عید استقبال مریمؑ۔ عهد انتقالی: عبوری دور۔ نَاقِل جمع ناقِلون ونَقَلة ونقّال: لیجانے والا۔ بارکش، باربردار، حمّال: اٹھانے والا، لانے والا، حامل، بیرا، خدمتگار، مترجم، نقل نویس، موصل (Conductor)۔ ناقِلُ السرعة: گئر منتقل کرنے والا لیور (آٹوموبائل کا) ناقلة: گاڑی۔ ناقلة البترول و ناقلة الزیت: ٹینکر، نفت بردار جہاز۔ ناقِلة الطائرات: طیارہ بردار جنگی جہاز۔ منقول: لیجایا ہوا، پہنچایا ہوا، ڈھویا ہوا، تبادلہ شدہ، نشر کیا ہوا، ترجمہ شدہ، نقل کیا ہوا، لکھا ہوا، متحرک، آسانی سے منتقل ہوسکنے یا کیا جاسکنے والا، آسانی سے اٹھایا جاسکنے والا۔ سفری، روایتی، ذخیرہ احادیث جمع منقولات: متحرک چیز منقولات یا اموال (املاک) منقولة: منقول جائیداد۔ منقولہ اشیاء۔ ذاتی جائیداد، منقولات المنزل: گھریلو فرنیچر سامان۔ مستشفی منتقل: عارضی ہسپتال، ایمبولینس، الاعیادُ المنتقلة: متحرک جشن۔ عِلَّة منتقلة: متعدی بیماری۔

نقم: ۱۔ نَقَمَ ـِ نَقِمَ ـَ نَقْمًا وتِنْقَامًا من فلان: کو سزا دینا۔ ـ الامرَ علی فلان او من فلان: کے کام پر اسے ملامت کرنا، اس پر عیب لگانا یا اسے مکروہ جاننا، کہا جاتا ہے: نَقِمَ فلانٌ وِتْرَہُ: فلاں شخص نے بدلہ لے لیا۔ ماتَنْقِمُ منا: جس پر تو ہمیں مطعون کرتا ہے۔ بدنام کرتا ہے۔ نَقَّمَ تَنْقِیمًا: کسی چیز کو بہت ناپسند کرنا۔ اِنْتَقَمَ منه: کو سزا دینا۔ النَقْمة والنِقْمَة والنَقِمَة جمع نِقَم و نِقَم ونَقِمات: انتقام، سزا کے ذریعے بدلہ۔

۲۔ نَقَمَ ـِ و نَقِمَ ـَ نَقْمًا الشیْءَ: کو جلدی کھا لینا۔

۳۔ النَقَم: راستہ کا درمیان۔ النَقِیْمَة: الطبیعہ کا بدل۔ کہا جاتا ہے: فلان میمون النقیمه: فلاں پاک نفس ہے۔

○ نَقَمَ ـِ نَقْمًا و نَقِمَ ـَ نَقَمًا من: سے انتقام لینا، بدلہ لینا۔ ـــ علی: کا مخالف یا دشمن ہونا، کے خلاف ہونا، کے خلاف پر کینہ و انتقام پروری والا ہونا، کے خلاف بغض وعناد رکھنا، کو برا جانا۔ ـ علی ہ: پر کیلئے غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ ـ علی: سے نفرت کرنا، سخت نفرت کرنا۔ ـ ہ علی: کے خلاف کچھ رکھنا۔ اِنْتَقَم من: سے انتقام لینا۔ ـــ ل: کا بدلہ لینا۔ نَقْمَة:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

انتقام۔ بدلہ، کینہ، بغض، عناد، تلخی، برا ماننا، آزردگی، بدبختی، بدنصیبی، آفت، مصیبت، ادبار، نحوست، سزا، آزمائش، ایذا، دکھ، تکلیف بھاری ضرب، کئے کی سزا، گناہوں کا بدلہ۔ نِقْمَة و نَقِمَة جمع نِقَم و نِقَمَات: مندرجہ بالا معانی، انتقام بدلہ۔ انتقام ناقِم: بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔ — علی کے خلاف کے مخالف، برہم، غصے، ناراض۔ مُنْتَقِم: انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، کینہ جو، کینہ پرور، انتقام پرور۔

نقه: نَقَهَ۔ نَقُوهًا فلانٌ من مرضه: صحت یاب ہوجانا مگر کمزوری باقی رہنا صفت نَاقِهٌ جمع نُقَّهٌ — نَقْهًا و نُقُوهًا و نَقَاهَةً و نَقَهَانًا الحديثَ: بات سمجھنا صفت۔ نَقِهٌ و نَاقِهٌ کہاجاتا ہے: فلان لا يفقهُ ولا ينقهُ وہ نہیں سمجھتا۔ نَقِهَ — نَقَهًا فلانٌ من مرضه صحت یاب ہونا مگر کمزوری باقی رہنا صفت ناقِه جمع نُقَّه۔ انْقَهَهُ اللهُ من مرضه: اللہ اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ — فلانًا الحديثَ کو بات سمجھانا۔ کہاجاتا ہے۔ انْقِهْ لي سمعَكَ: میری بات سن۔ انتقه من الحديث: بات سے تسلی پانا۔ — من مرضه: بیماری سے شفایاب ہونا۔ اِسْتَنْقَهَ: پوچھنا۔ — الحديثَ: بات سمجھنا۔ النَّقْهَة: صحت یابی۔ کہاجاتا ہے له في كل عام مَرْضَة و نَقْهَة: وہ ہر سال بیمار ہوتا اور صحت یاب ہوتا ہے۔ ◯ دار النَّقَاهَة: آرام مرکز، روبصحت مریضوں کا گھر۔ نَقِه و نَاقِه: روبصحت۔ نَقَه و نَقْهَة و نَقَاهَة: صحتیابی، افاقہ، شفا، شفایابی۔

نقو: ا۔ نَقَا يَنْقُو نَقْوًا العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ نَقِيَ يَنْقَى نَقَاوَةً و نَقَاءً و نَقَاءَةً و نُقَاوَةً و نَقَايَةً: صاف ستھرا ہونا، خوبصورت ہونا، خالص ہونا، صفت نَقِيّ۔ نَقَّى تَنْقِيَةً ةُ: کو صاف ستھرا کرنا، پسند کرنا۔ — الطعامَ: غلہ کو کوڑے کرکٹ سے صاف کرنا۔ أَنْقَى إنْقَاءً ةُ: کو صاف ستھرا کرنا، پسند کرنا۔ — الطعامَ: غلہ سے کوڑا کرکٹ نکالنا۔ — البُرُّ: گیہوں کا موٹے دانے والا ہونا۔ — تِ الإبلُ وغيرُها: اونٹوں وغیرہ کا موٹا ہونا۔ صفت مُنْقِيَة جمع مُنْقِيَات — العودُ: لکڑی میں پانی چلنا، لکڑی کا گیلا ہونا۔ تَنَقَّى تَنَقِّيًا ةُ: کو پسند کرنا۔ — العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ اِنْتَقَى ةُ: کو پسند کرنا۔ — العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ — النقا والنقو والنِقو جمع أنقاء: ہر گودے دار چیز۔ نَقَاةُ الشيءِ: عمدہ حصہ۔ خلاصہ۔ نَقَاةُ الطعام و نُقَاتُهُ و نُقَايَتُهُ: غلہ کا کوڑا کرکٹ، کوڑا، کرکٹ سے صاف غلہ (ضد)۔ نُقْوَة: عمدہ حصہ۔ نَقَاوَةُ الشيءِ: عمدہ حصہ۔ خلاصہ۔ النُّقَاوَ جمع نَقَاوَى (ن): ایک قسم کی نباتات جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ نُقَاوَةُ الشيءِ جمع نَقَاوَى و نُقَاء: عمدہ چیز۔ خلاصہ۔ نُقَايَةُ الشيءِ جمع نَقَايَا و نُقَاء: عمدہ حصہ خلاصہ۔ نُقَايَةُ الطعام: غلہ کا کوڑا کرکٹ۔ غلہ جس سے کوڑا کرکٹ نکال دیا گیا ہو (ضد) النَّقِيّ جمع نِقَاء و أنقياء و نُقَواء: صاف ستھرا۔ الأَنْقَى م نَقْوَى: اسم تفضیل۔ رجلٌ أنقى م نَقْواء: باریک لمبی ہڈیوں والا۔ فَخِذٌ نَقْوَاء: باریک ہڈیوں والی اور کم گوشت والی ران (ٹانگ بھیڑ بکری کی)۔

۲۔ النَّقَاة: ریت کا سفید اور بے برگ وگیاہ ٹیلہ۔ النَّقَا: ریت کا ابھرا ہوا قطعہ۔ مثنی نَقَوَان و نَقَيَان جمع أنْقَاء و نُقِيّ و نُقْيَان۔ بناتُ النَّقَا (ح): ریت میں رہنے والا ایک قسم کا کیڑا۔ اسے شحمة النقاء بھی کہتے ہیں۔ النِّقَة: ثِقَة کا تابع ثِقَةٌ نِقَةٌ: خالص اعتماد۔ اس کی اصل نِقْو ہے لام کلمہ حذف کرکے اس کی جگہ ت لگائی گئی ہے۔

◯ نقا: پاکیزگی، خالص ہونا۔ نَقَاوَة: پاکیزگی، خالص ہونا، صفائی، کھراپن (قیمتی دھات کا)، انتخاب، چناؤ، بہترین حصہ، پسند، عمدہ ترین، نفیس ترین۔ نُقَايَة: انتخاب، بہترین حصہ، پسند۔ نَقِيّ جمع نِقَاء و أنقياء: خالص، صاف ستھرا، بے داغ، بے عیب، شفاف شفاف، صاف، نکھرا ہوا، گرد وغبار یا غیر متعلق مادہ کے بغیر۔ تَنْقِيَة: صاف کرنا، اچھی طرح سے دھونا، پاک کرنا، خالص بنانا، چھاننا چھانٹ کر الگ کرنا، الگ الگ ڈھیریاں بنانا۔ إنْتِقَاء: انتخاب۔ قدرة على الانتقاء: قوت انتخاب۔ مُنْتَقَى: منتخب، پسندیدہ، چیدہ، نادر، عمدہ، نفیس۔

نقی: ا۔ نَقَى يَنْقِي نَقْيًا العظمَ: ہڈی سے گودا نکالنا۔ النِّقْيُ جمع أنْقَاء: ہڈی کا گودا، آنکھ کی چربی۔ النَّقِيَة: لفظ، کلمہ کہاجاتا ہے: سمعتُ نقية حق: میں نے حق کا کلمہ سنا۔ النَّقِيّ جمع نِقَاء و أنقياء و نُقَواء: صاف۔ صاف ستھرا۔ النَّقِيَّة جمع نَقَايَا: نقی کا مونث۔ کلمہ۔ لفظ۔

۲۔ نَقِيَ يَنْقَى نَقَاءً ةُ: سے ملاقات کرنا۔ المُنْقَى والمُنَقَّى: راستہ۔ سڑک۔

نكّ: ا۔ نَكَّ ـُ نَكًّا على الغريم: قرضدار پر سختی کرنا۔ — العملَ: کام کو درست کرنا۔

۲۔ نَكْنَكَ نَكْنَكَةً الأمرَ: معاملہ کی اصلاح کرنا۔ — على غريمه: قرضدار پر سختی کرنا۔

نكا: نَكَأ ... القرحة: زخم کا چھلکا چھیلنا۔ — العدوَّ وفي العدوِّ: دشمن میں کئی قتل و زخمی کرنا، خونریزی کرنا۔ — فلانًا حقَّهُ: کا پورا حق ادا کرنا۔ إنْتَكَأ إنْتِكَاءً حقَّهُ من فلان: کسی سے اپنا حق لیکر قبضہ کرنا۔ کہاجاتا ہے: هو نُكَأَةٌ نُكَأةٌ: وہ اپنے ذمہ واجب جلدی ادا کرنے والا ہے۔ ٹال مٹول نہیں کرتا۔

نكب: ا۔ نَكَبَ ـُ نَكْبًا و نُكُوبًا عنهُ: سے ہٹ جانا۔ — الدهرُ فلانًا: کو زمانہ کا مصیبت میں مبتلا کرنا۔ نِكَابَةً و نُكُوبًا فلانٌ على قومه: اپنی قوم کا قابل بھروسہ مددگار رہنا۔ — نَكْبًا الشيءَ وبه: کو پھینک دینا۔ — الإناءَ: برتن میں جو کچھ ہو گرا دینا، بہا دینا۔ — الكنانةَ: ترکش میں کا سب کچھ بکھیر دینا۔ — ت الحجارةُ رجلَهُ: پتھر کا پاؤں کو زخمی کر دینا۔ — نُكُوبَاتٍ الريحُ: ہوا کا ٹیڑھا چلنا۔ نَكِبَ ـَ نَكَبًا عن الطريق: راستے سے ہٹ جانا۔ — البعيرُ: اونٹ کا نکب بیماری والا ہونا۔ الرجلُ: کا کندھے کی بیماری والا ہونا۔ نُكِبَ: مصیبت زدہ ہونا۔ نَكَّبَ عن الطريق: راستہ سے ہٹ جانا، ایک طرف ہوجانا۔ — الشيءَ: کو ایک طرف کرنا، ہٹانا، کہاجاتا ہے۔ نَكَّبَهُ الطريقَ ونَكَّبَ به الطريقَ ونَكَّبَ به عن الطريق: کو راستے سے ہٹانا اور ایک طرف کر دینا۔ نَاكَبَهُ: کے مونڈھے کے مقابل ہونا۔ تَنَكَّبَ عنه: سے ہٹنا، سے بچنا، الگ ہوجانا۔ سے کندھا موڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہونا (کہاجاتا ہے تَنَكَّبْ عن وجهي: میرے سامنے سے ایک طرف ہوجایا کنارہ کر۔ دور ہوجا) — على الشيءِ: پر ٹیک لگانا۔ — كنانتَهُ او قوسَهُ: ترکش یا کمان کو کندھے پر ڈالنا۔ إنْتَكَبَ الرجلُ كنانتَهُ او قوسَهُ: ترکش یا کمان کو کندھے پر ڈالنا۔ کہاجاتا ہے رجلٌ ناكبٌ عن الحق: حق سے منحرف مرد۔ النَّكْب (مص) جمع نُكُوب: مصیبت۔ النَّكْبَة جمع نَكَبَات: نکب کا اسم مرّة، مصیبت۔ النَّكَبُ (مص): نیم جھکاؤ، اونٹوں کی کندھوں کی بیماری۔ النَّكِب: پتھر سے زخمی پاؤں والا۔ الأَنْكَب: کندھے کی بیماری والا اونٹ، جس کا ایک کندھا دوسرے سے اونچا ہو۔ گستاخ، ظالم۔ رجلٌ انكبُ عن الحق: حق سے منحرف۔ النَّكْبَاء جمع نُكْب و نَكْبَاوَات: انکب کا مونث۔ ريحٌ نَكْبَاءُ: ٹیڑھا چلنے والی ہوا۔ النُّكَيْبَاء: شمالی مشرقی ہوا۔ النَّكِيب: کمر کا گرد اگرد۔ المِنْكَاب: گستاخ، ظالم۔ رجلٌ مِنْكَابٌ عن الحق: حق سے منحرف مرد۔ المَنْكِب جمع مَنَاكِب (غ ا): کندھا، شانہ۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہر چیز کا پہلو، جانب، سِرنا في مَنكِبٍ من الارض او الجبال: ہم نے زمین یا پہاڑ کے ایک جانب سفر کیا۔ ــــ من القوم: قوم کا ماہر یا مددگار۔ ــــ من الارض: راستہ، بلند جگہ۔ (کہا جاتا ہے: امشوا في مناكبها: بلند جگہوں پر چلو۔ فلانٌ مَعِيَ على حدِّ مَنكِبٍ: فلاں شخص جب بھی مجھے دیکھتا ہے، اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ میرا سامنا نہیں کرتا۔ تشابهت منهم المناكِبُ والرؤوسُ: ان میں کوئی بھی پسندیدہ نہیں هَزَّ منكبه لكذا: وہ اس بات پر خوش ہوا۔ مَنكِبُ الجوزاء و منكبُ ذي العِنان و مَنكِبُ الفرس (فلك): ستاروں کے نام۔ المَناكِب: مَنكِب کی جمع۔ ــ في ريش الطائر: پرندے کے چار چھوٹے پر۔ اس کا واحد نہیں آتا۔ المَنكُوب (مفع): مصیبت زدہ۔ پتھر سے زخمی پاؤں والا۔

۲۔ الأَنكَب: بغیر کمان شخص۔ النُكبَة جمع نُكَب: بے اندازہ غلہ کا ڈھیر۔ النَّكُوب: بکریوں کا گوبر جو بہت پرانا ہو۔

○ نَكَبَ ـُ نَكْبًا و نَكَبَانًا ہٗ: کو ناشاد کرنا، خستہ حال، مفلوک الحال، یا زار و نزار کرنا۔ تکلیف میں ڈالنا، پریشانی میں مبتلا کرنا، مصیبت پہنچانا، مغموم کرنا۔ ــــ ہ: کو گرا دینا۔ ــ ہ: کو بے سہارا کرنا۔ نُكُوبًا (ہوا) کا پہلو کی جانب سے چلنا، رخ بدلنا۔ ــــ نَكْبًا و نُكُوبًا عن: سے انحراف کرنا، منحرف ہونا، ہٹنا، تجاوز کرنا (جیسے راستہ، سڑک وغیرہ سے) نَكَّبَ ہ: کو ہٹانا، پھیرنا، رخ پلٹنا، موڑنا، منحرف کرنا، تَنَكَّبَ ہ / عن: سے منحرف ہونا، سے انحراف کرنا، سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا، سے الگ رہنا، باز رہنا، پرہیز کرنا۔ ــــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، سے پرے ہٹ جانا۔ ــ ہ: کی ذمہ داری لینا، کو ذمے لینا، تَنَكَّبَ به عن: کو سے منحرف کرنا۔ نَكْب جمع نُكُوب و نَكْبَة: مصیبت، آفت، بدبختی، بدنصیبی، بدبختی، بلائے ناگہانی۔ مَنكِب جمع مَناكِب: کندھا، پہلو، جانب، بلند زمین۔ دَفَعَ بِمَنكِبَيْهِ الهواءَ: تیزی سے جانا، جلدی کرنا۔ مَنكُوب: مصیبت زدہ، ناشاد، بدقسمت، بدنصیب، مفلوک الحال، خستہ حال، کسی بلائے ناگہانی کا شکار۔

نکت: نَكَتَ ـُ نَكْتًا الارض بقضيب او باصبعه: غور و فکر کی حالت میں زمین کو لکڑی یا انگلی سے کریدنا۔ ــ الناسُ بالحصى: لوگوں کا زمین پر کنکر پھینکنا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا اچھلنا، کہا جاتا ہے۔ مَرَّ الفرسُ ينكتُ: گھوڑا اچھلتے ہوئے گزرا۔ ــــ العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ ــ فلانًا: کو سر کے بل گرانا اسی سے ہے۔ لأَنكُتَنَّ بكَ الأرضَ: میں تمہیں سر کے بل زمین پر گراؤں گا۔ ــ كِنانَتَهُ: ترکش کو بکھیر دینا۔ تمباکو نوش کہتے ہیں: نَكَتَ نَفَسَ التنبك او الغليون او المِنفَضَة: اس نے تمباکو، حقہ یا خاکستر دان سے راکھ جھاڑی۔ نَكَّتَ الرُطَبُ: کھجور کا سرخی پکڑنا۔ ــ في قوله: کی ہنسی اڑانا۔ ــ عليه: پر نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا۔ اِنتَكَتَ فلانٌ: کا سر کے بل گرنا۔ النُكتَة جمع نُكَت و نِكات: داغ۔ زمین پر کریدنے کا نشان۔ آئینہ یا تلوار وغیرہ پر لگی گندگی سی، کلام کی باریکی، لطیفہ۔ النَكّات: بڑا نکتہ چین۔ گفتگو میں نکتے لانے والا۔ النَكِيت: بدنام، جس کی ساکھ ختم کی گئی ہو۔ المَنكُوت (مفع): سر کے بل گرایا ہوا۔

○ نُكتَة جمع نُكَت و نِكات: داغ، دھبا، نشان، ظرافت بھری، پرلطف بات، پھبتی، لطیفہ، فقرے بازی، مذاق، ہنسی، نقل، مزاحیہ ابہام، لفظوں سے ہاتھ کرنا، مذاق کی اصل بات۔ حاضر النكتة: فقرے باز، حاضر جواب نَكّات: بذلہ سنج، پرلطف، ظرافت بھرا، خوش طبع، دلچسپ ہنسانے والا، ہنسی اڑانے والا، مذاق اڑانے والا، تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرنے والا۔ مُنَكِّت: ہنسی اڑانے والا، مذاق اڑانے والا۔ تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرنے والا۔ تنكيت: فقرے بازی کرنا، پھبتی کسنا، بیوقوف بنانا، ایذا دینا، چھیڑ چھاڑ، دل لگی، ہنسی مذاق، چہل، مذاق، ہنسی اڑانا۔

نکث: ا۔ نَكَثَ ـُ نَكْثًا العهدَ او البيعَ: عہد یا بیع توڑنا، فسخ کرنا۔ ــ الحبلَ او الكساءَ: رسی یا لباس کھولنا۔ ــ السواكَ: مسواک کے سرے کو نرم کرنا۔ تَنَاكَثَ القومُ عهودَهم: لوگوں کا اپنے عہد توڑ دینا۔ اِنتَكَثَ الحبلُ وغيرُهُ: رسی وغیرہ کا کھلنا۔ السواكُ: مسواک کے سرے کا نرم ہونا۔ ــ فلانٌ مِن حاجةٍ إلى أخرى: ایک کام سے ہٹ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہونا۔ النِكث جمع أنكاث: دوبارہ کاتنے کیلئے ادھیڑا ہوا کمبل یا خیمہ۔ حبلٌ نِكثٌ و انكاثٌ: ادھیڑی ہوئی رسی۔ النُكاثة: رسی کا کھلا ہوا حصہ۔ النَكّاث: پرانی بنی ہوئی یا بٹی ہوئی چیز کو ادھیڑنے والا۔ النَكِيث م نَكِيثَة: ادھیڑا ہوا۔ النَكِيثَة جمع نكائث: مشکل کام، جس میں لوگ اپنے عہد توڑ ڈالیں، (کہا جاتا ہے: وقعوا في النكيثة: وہ مشکل کام میں پھنس گئے جس میں عہد توڑنے پڑ جائیں۔ قال قولاً لانكيثةَ فيه: اس نے ایسی بات کہہ دی جس میں وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ بعيرٌ مُنتكِثٌ: دبلا اونٹ جو پہلے موٹا ہو۔

۲۔ النُكاث: اونٹوں کے موہنوں میں نکلنے والی پھنسیاں۔ النَكِيثَة جمع نكائث: نفس، طبیعت۔ (کہا جاتا ہے: هو ذو نَكِيثَةٍ حَسَنَةٍ: وہ اچھی طبیعت والا ہے) قوت، پوری پوری کوشش، کہا جاتا ہے: صَرَفَ فيه نَكِيثَتَهُ: اس نے اس میں انتہائی کوشش کی۔

○ نَكَثَ ـُ نَكْثًا (ہ): (عہد یا اسی جیسا کوئی قانونی فرض) توڑ ڈالنا، کی خلاف ورزی کرنا۔ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا۔ اِنتَكَثَ: ٹوٹ جانا، کی خلاف ورزی ہونا۔ نَكث: (عہد وغیرہ کی) خلاف ورزی، عہد شکنی وغیرہ۔ ناكِث: بیوفا، غدار، نمک حرام۔

نکح: ا۔ نَكَحَ ـِ نِكاحًا و نَكْحًا المرأةَ: عورت سے نکاح کرنا۔ ــ تِ المرأةُ: عورت کا منکوحہ ہونا، شادی شدہ ہونا، صفت ناكِح و ناكِحَة: (یعنی شوہر والی)۔ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کی مٹی میں جذب ہو جانا۔ ــ الدواءُ فلانًا: پر دواء کا اثر کرنا، میں سرایت کرنا، کو زیر کرنا۔ ــ النعاسُ عينَهُ: نیند کا آنکھوں پر غالب آنا، أنكَحَهُ المرأةَ: کی عورت سے شادی کرانا، کا عورت سے نکاح کرانا۔ تَناكَحَ القومُ: ایک دوسرے سے شادی کرنا۔ ــ تِ الأشجارُ: درختوں کا آپس میں مل جانا۔ اِستَنكَحَ الرجُلُ المرأةَ: مرد کا عورت کو نکاح میں لانا، سے شادی کرنا۔ ــ في بني فلان: کسی قبیلہ میں شادی کرنا۔ ــ النومُ عيونَهم: کی آنکھوں پر نیند کا غالب آنا۔ المَناكِح: عورتیں۔

۲۔ النُكَح: بہت چوکنا (عام زبان میں)

○ ناكَحَ ہٗ: شادی کی وجہ سے کسی کا رشتہ دار ہو جانا۔ نِكاح: شادی، شادی کا معاہدہ یا عہد نامہ، شادی شدہ ہونا۔ متاہل زندگی۔ تأهل

نکخ: نَكَخَ ـَ نَكْخًا فلانًا في حلقه: کے حلق پر مکا مارنا۔

نکد: نَكَدَ ـُ نَكْدًا فلانًا حاجتَهُ: کو اس کی حاجت سے روک دینا، محروم کرنا، یا اس میں سے تھوڑا سا دینا۔ ــ الغرابُ: کوے کا بہت کائیں کائیں کرنا۔ ــ القومُ الرجُلَ: کو لوگوں کا سوالوں کی کثرت سے تنگ دست کر دینا۔ نَكِدَ ـَ نَكَدًا العيشُ: گزران کا تنگ ہونا۔ ــ الرجُلُ: تنگ گزران والا ہونا۔ ــ تِ البئرُ: کنویں کا پانی کم ہو جانا۔ نُكِدَ الرجُلُ: بہت سوالوں اور کم بھلائی والا ہونا۔ نَكَّدَ عَيْشَهُ: کی زندگی کو تنگ کر دینا۔ ــ فلانًا: کی زندگی دشوار بنا دینا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نَاکَدَہٗ: کو تکلیف دینا، سے سختی برتنا۔ انکَدَہٗ: کو کم خیر پانا۔ تَنَکَّدَ عیشُہٗ: کی زندگی مکدر ہونا۔ تَنَاکَدَا: ایک دوسرے سے سختی برتنا۔ النَّاکِدُ جمع نُکَّد (فا)۔ (نَاقَۃٌ نَاکِدٌ: کم دودھ والی اونٹنی) وہ عورت جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ النَّکَدُ: کم دادودھش۔ رَجُلٌ نَکِدٌ جمع انکاد و مناکید: درشت خو، کم دادودھش والا۔ النُّکُدُ: کم دادودھش۔ ــــ واحد نَکْدَاء: بے دودھ والی اونٹنیاں، بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں (ضد)۔ مَاءٌ نَکِدٌ: تھوڑا پانی۔ رَجُلٌ نَکِدٌ و نَکَدٌ جمع انکادو مناکید: درشت خو، کم دادودھش والا۔ اَرْضُونَ نِکَادٌ: کم فائدہ والی زمینیں۔ الْاَنْکَدُم نَکْدَاء جمع نُکْد: تکلیف دہ کم دادودھش والا، کہا جاتا ہے: جَاءَ مُنْکِدًا: وہ آیا تو اس کی آمد قابل تعریف نہ تھی۔ یا وہ مشغول نہ تھا۔ عَطَاءٌ مُنْکَّد: تھوڑا اعطیہ۔ رَجُلٌ مَنْکُوْدٌ: وہ شخص جس سے سوال میں اصرار کیا جائے۔ عطاءٌ مَنْکُودٌ: تھوڑا اعطیہ۔

○ نَکِدَ ــ نَکَدًا: سخت ہونا، مشکل ہونا، ناخوش ہونا، مفلوک الحال ہونا۔ نَکَدَ ــ نُکْدًا ہ: کو تھوڑا دینا، کو تکلیف پہنچانا، ستانا، دق کرنا، تنگ کرنا۔ نَکَّدَہٗ: کے لئے زندگی دشوار، مشکل یا قابل نفرت بنانا، کی زندگی تلخ کرنا۔ نَاکَدَہٗ: کو تکلیف پہنچانا، ستانا، دق کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، کا ناک میں دم کرنا۔ تَنَکَّدَ: مفلوک الحال، دشوار یا تلخ ہونا۔ (زندگی کا) نَکَدٌ جمع انکاد: بدبختی، بدقسمتی، دشواری، اذیت، آزاد، تکلیف، مصیبت، ادبار، افتاد، بپتا، ایذا رسانی، تکلیف دہی، وبال جان، پریشانی، تشویش۔ نَکِدٌ جمع انکاد و مناکید: دشوار، تکلیف دہ، پرمشقت، سخت طلب، ناخوش، تنگ مزاج، تندخو، برافروختہ، مخالف، بدمزاج۔ انکد: تکلیف دہ، ذہنی اذیت پہنچانے والا۔ مُنَاکَدَۃ جمع مُنَاکدات: دقت، تکلیف، زحمت، دکھ، بے چینی، بے آرامی، بوجھ، مصیبت، پریشانی۔ مَنْکُود: ناخوش، بدقسمت، بدنصیب، بدبخت۔ مَنْکُودُ الحظ جمع مَنَاکِید الحظ: بدنصیب، بدبخت، بدقسمت۔

نکر: ۱۔ نَکُرَ ــ نَکَارَۃً الامرُ: معاملہ مشکل، سخت یا دشوار ہونا۔ نَکِرَ ــ نَکِرًا و نُکُرًا و نُکُورًا و نَکِیرًا الامرَ: کسی امر سے ناواقف ہونا۔ ــــ الرجلَ: کو نہ جاننا۔ نَکَّرَہٗ: کو تبدیل کر دینا۔ ــــ الاسمَ: اسم کو نکرہ بنانا۔ نَاکَرَ مُنَاکَرَۃً: سے قتال کرنا، جنگ کرنا، کو دھوکا دینا۔ انْکَرَہٗ: سے ناواقف ہونا۔ ــــ حَقَّہٗ: کے حق کا انکار کرنا۔ ــــ علیہ فعلَہٗ: پر عیب لگانا، کو اس کے فعل سے منع کرنا۔ تَنَکَّرَ الرجلُ: اچھی حالت سے نکل کر بدحال ہونا، بھیس بدلنا۔ ــــ لِفُلَان: کے لئے اجنبی ہونا۔ فلانٌ: بدخلق ہونا۔ تَنَاکَرَ: جان بوجھ کر ناواقف بننا۔ ــــ الامرَ: سے ناواقف ہونا۔ ــــ القومُ: ایک دوسرے سے دشمنوں یا اجنبیوں جیسا سلوک کرنا۔ اِسْتَنْکَرَ الامرَ: سے ناواقف ہونا۔ ــــ امرًا یجہلُہٗ: نامعلوم امر کے بارے میں پوچھنا۔ النُّکْر (مص): چالاکی، تیزفہمی۔ النُّکُر (مص): چالاکی، تیزفہمی، سخت براکام، براکام۔ النُّکْر سخت کام، مجہول۔ رَجُلٌ نُکُرٌ: چالاک تیزفہم مرد۔ امراۃٌ نُکُرٌ: چالاک تیزفہم عورت۔ رَجُلٌ نَکِرٌ و نَکُرٌ جمع انکار: چالاک، تیزفہم۔ النَّکِرَۃ: انکار سے اسم۔ النکِرَ جمع نکرات: انکار۔ معرفۃ کی ضد۔ النَّکَارَۃ (مص): چالاکی۔ تیزفہمی، جہالت۔ النَّکْرَاء: چالاکی، تیزفہمی، مجہول، ناشناختہ، مصیبت، کہا جاتا ہے: فُلانٌ ذو نکراء: فلاں شخص چالاک تیزفہم اور عقلمند ہے۔ اصابتھم من الدھر نکراءُ: انہیں زمانہ سے سختی پہنچی۔ یا ان پر زمانہ کی سختی آ پڑی۔ نُکْرَاءُ الدھر: زمانہ کی سختی۔ النَّکِیر: تغیر، دگرگونی۔ امرٌ نَکِیرٌ: سخت دشوار کام۔ حصن نکیرٌ: مضبوط قلعہ۔ المُنْکَر (مفع): جمع مُنْکَرات و مَنَاکِر: وہ قول یا فعل جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اس کی ضد معروف ہے۔ رَجُلٌ مُنْکَرٌ: چالاک، تیزفہم۔ المُنَکَّر عند النحاۃ: اسم نکرہ (معرف کا الٹ) المَنْکُور (مفع) جمع مَنَاکِیر: مجہول، ناشناختہ۔ المَنَاکِیر: ناپسندیدہ امور۔ ھم یرکبون المناکیر و المُنْکَرات: یہ وہ لوگ ناپسندیدہ امور اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کاموں میں مشغول ہیں۔

۲۔ النَّکِرَۃ جمع نَکِرات: خون یا پیپ کا پھوڑا۔ مُنْکَر و نَکِیر: کہا جاتا ہے یہ دو فرشتے ہیں جو قبروں میں ایمان کے بارے میں مردوں کے بیان لیتے ہیں۔

○ نَکِرَ ــ نَکِرًا و نُکْرًا و نُکُورًا و نَکِیرًا ہ/ ہ: کو نہ جاننا۔ ــ ہ: سے ناواقف ہونا، کا انکار کرنا۔ کو قبول نہ کرنا، نہ ماننا۔ نَکَّرَہ: کا بھیس بدلنا۔ ــــ ہ: اسم کو اس کی نکرہ شکل میں استعمال کرنا۔ اسم کو نکرہ بنانا۔ نَاکَرَہ: کو مسترد کرنا، ناپسند کرنا۔ انْکَرَ ہ/ ہ: سے تعلق کا انکار کرنا۔ ــــ ہ کو قبول یا تسلیم کرنے سے انکار کرنا، کا انکار کرنا، سے لاتعلقی ظاہر کرنا، کو ماننے یا پہچاننے سے انکار کرنا، کو اپنا کہنے سے انکار کرنا، کے علم کا انکار کرنا، کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا۔ ــــ ہ علی: کو کسی چیز کا انکار کرنا، کو کوئی چیز نہ دینا۔ کے بارے میں کسی چیز کو مسترد کرنا۔ ــــ ہ علی: کو پر

ملامت کرنا، کی پر مذمت کرنا، پر کا الزام لگانا، کو پر ڈانٹنا، کو پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھاڑ جھپاڑ کرنا۔ ــــ ہ من: کسی میں کسی بات پر تنقید کرنا۔ ــــ علی ہ کو کیلئے ملامت کرنا۔ انکر ذاتہ: نفس کشی کرنا۔ انکر نفسَہٗ: ذاتی شکوک کو دل میں رکھنا۔ انکرتُ انی اراہ: میں نے اسے نہ دیکھنے کا بہانہ بنایا۔ تَنَکَّرَ: بھیس میں ہونا، بھیس بدلنا، بدتر حالت میں تبدیل ہونا، شناخت کی دسترس سے باہر، تبدیل ہونا۔ ــــ ل: سے بیگانہ ہونا، کھچا کھچا رہنا، کا دل توڑنا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا، سے دشمنی برتنا، سے بدتمیزی یا اکھڑپن کا برتاؤ کرنا، کو اپنے دل سے روکنا۔ تَنَاکَرَ ہ: سے ناواقف ہونا، کو نہ جاننے کا بہانہ کرنا۔ ــــ: بے خبری، ناواقفی کا حیلہ کرنا، تصنع کرنا۔ ــ ہ: سے لاتعلقی کا اظہار کرنا، کا دل توڑنا، کو کاٹنا، نظرانداز کرنا، کو نہ جاننے کا بہانہ کرنا۔ استنکرہ/ ہ کو نہ جاننا، ــــ ہ: سے ناواقف ہونا۔ سے بے خبر ہونا، کو ناپسند کرنا، کو مسترد کرنا، سے سخت نفرت کرنا۔ نُکْر: انکار، تردید۔ نَکِر: نامعلوم، گمنام، تھوڑا معلوم۔ نُکْرَان: انکار۔ لا نُکْرَان: یہ نا قابل تردید ہے۔ نُکْرَان الجمیل: ناشکری، ناشکر گزاری، احسان فراموشی، احسان ناشناسی، ناسپاسی، نکران الذات: نفس کشی۔ نکیر: انکار۔ ناپسندیدگی، استرداد، نامنظوری، نفی، ابطال، قصوروار، قابل الزام، مخالف، خلاف طبیعت، ناگوار، نامرغوب، نفرت دلانے والا، برگشتہ کرنے والا، حقیر، ذلیل یا پاپی کمینہ، گھناؤنا، نفرت انگیز، مکروہ، کریہ، قابل نفرت، ظالم، نابکار، بدذات، نہایت برا۔ شدّ علیہ النکیرَ: کو سخت سرزنش کرنا۔ اَنْکَر م نَکْرَاء: قصوروار، قابل الزام، قابل نفرت، نفرت انگیز، نفرت دلانے والا، متنفر کرنے والا، برگشتہ کرنے والا، حقیر ذلیل، خبیث، پاپی کمینہ، گھناؤنا، نفرت انگیز، قابل نفرت، ابتسامۃ نَکْرَاء: شریر مسکراہٹ، کینہ پرور مسکراہٹ۔ انکارُ الذات: نفس کشی، ایثار، بے لوثی۔ تَنَکُّر: بھیس، بہروپی ناچ، محفلُ التنکر: فینسی ڈریس پارٹی، کاسٹیوم بال (fancy derss party, costume ball) حفل تنکری: مندرجہ بالا معنے۔ استنکار: ناپسندیدگی، خوف دہشت، نفرت بیزاری۔ مُنَکَّر: غیر مُعَیَّن، غیر معرف۔ مُتَنَکِّر: بھیس بدلے ہوئے، بھیس میں بھیس بدل کر (یا) کسی اور نام سے بھیس بدل کر، (یا) کسی اور نام سے سفر کرنے والا۔ رقص مُتَنَکِّر: کاسٹیوم بال (محفل Masked ball (Costume ball)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

رقص میں حصہ لینے والے نقاب اوڑھے ہوتے ہیں یا انہوں نے مصنوعی چہرے لگائے ہوتے ہیں)
مُستَنکَر: قابل اعتراض، لائق ملامت، عجیب، انوکھا، نرالا۔

نکز: ا۔نَکَزَ۔ نَکزاً الحیّۃُ فلاناً: کو سانپ کا ڈسنا۔ ـــ فلاناً: کو مارنا، دفع کرنا، ہٹانا۔ ـــ الشیءَ: کو چھونا۔ ـــ الدابۃ بعقبہ: جانور کو ایڑ سے ہانکنا۔ ـــ نَکزاً و نُکوزاً الماءُ: پانی کا زمین میں جذب ہو جانا۔ چلا جانا۔ ـــ البحرُ: دریا کا خشک ہونا۔ ـــ ت البئرُ: کنویں کا پانی کم ہونا یا ختم ہونا۔ نَکِزَ۔ نَکزاً البحرُ: دریا کا گھٹنا۔ اَنکَزَ البئرَ: کنویں کے پانی کو ختم کرنا۔ الناکِز جمع نَوَاکِز فا، بئر ناکِزٌ: وہ کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو۔ النِکز و المُنکِز: خالی کہا جاتا ہے: جاء نِکزاً و مُنکِزاً: وہ خالی آیا۔ بئرٌ نکزٌ: تھوڑے پانی والا کنواں۔ النکّاز جمع نکاکیز و نکّازات: اسم مبالغہ (ح) ایک قسم کا چھوٹے سر والا زہریلا سانپ۔ البئر النکوز جمع نُکُز: وہ کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو کہا جاتا ہے: فلانٌ بنکزۃٍ من العیش: فلاں شخص تنگ گزران والا ہے۔
۲۔ النِکز: رذیل لوگ۔ ہڈی میں بچا ہوا گودا۔
نکز۔ نُکزاً: چھونا۔ ـــ ہٗ: کو اکسانا۔

نکس: نَکَسَ۔ نَکساً ہٗ: کو اوندھا کرنا۔ آگے پیچھے کرنا۔ ـــ رأسَہٗ: ذلت سے سر جھکانا۔ ـــ الطعام وغیرہٗ داءَ المریض: کھانے وغیرہ کا بیمار کے مرض کو لوٹا دینا۔ ـــ الخضابَ: بار بار خضاب لگانا، کہا جاتا ہے: نکستُ فلاناً فی ذلک الامرِ: میں نے فلاں شخص کو اس معاملہ میں اس سے نکلنے کے بعد لوٹا دیا۔ نُکِسَ الرجُلُ: کمزور ہونا، عاجز ہونا۔ ـــ الرجُلُ عن نظرائہِ: اپنے ہم عمروں سے کوتاہی کرنا۔ ـــ المریضُ: مریض کا دوبارہ بیمار پڑنا۔ نَکَّسَ تنکیساً ہٗ: کو اوندھا کرنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں سے نہ جا ملنا۔ صفت مُنکِّس۔ تنکّس: اوندھا ہونا۔ اِنتکس: سر کے بل گرنا۔ ـــ المریضُ: مریض کا دوبارہ بیمار پڑنا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ اِندکس: اور ان کے نزدیک اس کا اسم "الدکسۃ" ہے۔ الناکس (فا) جمع نواکس: (خلاف قاعدہ ہے): سر جھکانے والا۔ النِکس جمع انکاس: ٹوٹے ہوئے سرے والا تیر، کمان جس میں شاخ کے سرے کو نچلا حصہ بنائیں، کمزور، کمینہ، بے خیر آدمی، پستہ قد، کرم و سخاوت میں کوتاہی کرنے والا۔ النُکس: بیماری کا دوبارہ آ جانا، گر کر نہ سنبھلنا اور پھر پہلے سے زیادہ زور سے گرنا۔ کہا جاتا ہے: تعساً لفلانٍ و نُکساً او نکساً: بددعاء کے طور پر کہنا: فلاں شخص کم بخت ہو اور گر کر نہ سنبھلے بلکہ اور زیادہ زور سے گرے۔ النُکس۔ مفرد ناکس: بہت بوڑھے لوگ۔ النُکاس: بیماری کا دوبارہ آ جانا۔ المُنکِّس (فا): آہستہ آہستہ چلنے والا گھوڑا جو سر نہ اٹھائے، وہ گھوڑا جو دوسرے گھوڑوں سے نہ جا ملے۔ المنکوس (مفع): دوبارہ بیمار پڑنے والا، عوام مدکوس کہتے ہیں۔ ـــ من الاولاد: وہ بچہ جس کے پیدا ہونے کے وقت سر سے پہلے ٹانگیں باہر نکلیں۔ پابل بجوقسٌ منکوسۃ: وہ کمان جس میں شاخ کے سرے کو نچلا حصہ بنائیں۔

نکس۔ نُکساً ہٗ: کو الٹا کرنا، اوندھا کرنا، کو نیچا کرنا، پیچھے ہٹانا، واپس لینا، اندر کھینچنا، نکس رأسہٗ او برأسہِ: سر کو جھکانا، کو اک طرف جھکانا۔ ـــ ہٗ: بیماری میں دوبارہ مبتلا کرنا۔ نُکِسَ: بیماری میں دوبارہ مبتلا ہو جانا۔ نَکَّسَ: بمعنی نَکَسَ نیز نَکَّسَ ہٗ: پرچم (جھنڈے) کو سرنگوں کرنا۔ اِنتکَسَ: الٹنا، اوندھا ہونا، سر کا جھکنا، گئی ہوئی بیماری میں فوراً مبتلا ہو جانا۔ نُکْس و نکسۃ: گئی ہوئی بیماری کا پھر لگ جانا۔ پستی۔ ذلت، کمی، کم ہمتی، خفت ابتدائی، انحطاط، تنزل، زوال، تنکّس: نسلی بگاڑ۔ اِنتکاس: گئی ہوئی بیماری کا پھر آنا، بیماری کا عود کرنا۔ مَنکُوس: الٹا کیا ہوا، اوندھا کیا ہوا، بیماری میں دوبارہ مبتلا۔ مُنکّس: الٹایا اوندھا کیا ہوا۔ مُنکّس الرأس: سر جھکائے ہوئے۔ مُنتکِس: گئی ہوئی بیماری میں فوراً مبتلا ہونے والا۔ عود کرنے والی (بیماری میں مبتلا)۔

نکش: نَکَشَ۔ نَکشاً البئرَ: کنویں کی مٹی نکالنا۔ ـــ الشیءَ: کونا کرنا۔ ـــ الشیءَ و من الشیءِ: سے فارغ ہونا، کو ختم کرنا۔ ـــ الارضَ: زمین کو کھرپنا، الٹنا پلٹنا (اسے رکھشا بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں عام زبان کے لفظ ہیں)۔ اِنتکش البئرَ: کنویں کی مٹی نکالنا۔ المِنکَش: معاملات میں غور کرنے والا۔ المِنکاش جمع مَناکیش: کنواں صاف کرنے کا آلہ۔ المنکوش مفع سفطٌ منکوشٌ: ٹکڑا جس کی سب چیزیں نکال لی گئی ہوں۔

نکش۔ نکشاً ہٗ: کسی چیز کو خصوصاً کنویں کو صاف کرنا، کنویں سے کیچڑ نکالنا۔ ـــ ہٗ: زمین کی ترائی کرنا، تلائی کرنا، کھرپنا، گوڈنا، اکھاڑنا، چندر سے صاف کرنا، کھودنا، جوتنا، میں ہل چلانا۔ ـــ ہٗ: کی تلاش کرنا، کو ڈھونڈنا، چھان مارنا، تاخت و تاراج کرنا۔ ـــ ہٗ: کو بے ترتیب کرنا، ابتر کرنا، خراب کرنا، نوچنا، کھونا، بکھیر دینا۔ ـــ ہٗ: درخت ہلانا۔ مِنکَش جمع مَناکِش: پھاوڑا، کدال، بیلچہ، کھرپا، جیلی، کریدنی۔ مِنکاش جمع مَناکیش: دریا صاف کرنے والی کشتی، آگ کریدنی۔ تبر، کدال، کلہاڑی۔

نکص: نَکَصَ۔ نَکصاً و نُکوصاً و مَنکَصاً عن الامرِ: سے رکنا، باز رہنا، صفت ناکص۔ ـــ علی عقبیہِ: پیچھے ہٹنا، بلند پروازی چھوڑ دینا، مزاج ٹھکانے لگنا، ارادہ ترک کر دینا۔ نَکَّصَ ہٗ: کو ہٹا دینا۔ اِنتکص الرجُلُ: ایڑیوں کے بل لوٹنا۔ المَنکَص: ہٹنے کی جگہ۔

نکظ: ا۔ نَکَظَ۔ نُکظاً فلاناً عن حاجتہ: سے کے بارے میں جلدی کرانا۔ نَکِظَ۔ نَکظاً: اپنی حاجت میں جلدی کرنا۔ ـــ للخروج: نکلنے کے لئے جلدی کرنا۔ ـــ الرحیلُ: کوچ کا وقت قریب آنا۔ نَکَّظَ ہٗ عن حاجتہ: پر کے بارے میں جلدی کرانا۔ انکظ ہٗ عن حاجتہ: سے کے بارے میں جلدی کرانا۔ النَکظ و النکَظ و النکظۃ و النکَظۃ و المَنکظۃ: جلدی۔
۲۔ نَکِظَ۔ نُکظاً: بہت بھوکا ہونا۔
۳۔ نکّظ حاجتَہ: کو مشکل بنانا۔ تنکّظ الرجُلُ: کی سفر میں حالت سخت ہونا۔ ـــ علی فلان: سے بخل کرنا۔ ـــ الامرُ علیہ: پر معاملہ مشکل و پیچیدہ ہونا۔ النکظ و النکَظ و النکظۃ و النکَظۃ و المنکظۃ: کوشش، سفر کی سختی۔

نکع: ا۔ نَکَعَ۔ نَکعاً ہٗ عن الامرِ: کو سے دور کرنا، کو سے جلدی سے ہٹانا، کو سے باز کرانا۔ ـــ فلاناً حقَّہٗ: کا حق روک لینا۔ ـــ فلاناً: کو پاؤں کی پشت سے مارنا۔ ـــ نَکعاً و تَنکاعاً فلانٌ عن الحاجۃ: سے باز رہنا، بچنا۔ ـــ الماشیۃ: مویشی کے تھن کو مار کر دودھ نکالنا۔ کہا جاتا ہے: ما نکع: کرتا رہنا۔ ما نکع یفعلہ: وہ اسے کرتا رہا، ما ادری این نکع: میں نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا۔ نکّعہٗ عن حاجتہ: کو حاجت سے ہٹا دینا، کی جلد بازی سے زندگی بے مزہ کرنا۔ انکعہٗ: کو رد کرنا، دفع کرنا، تھکانا۔ ـــ ہٗ عن الامر: کو جلدی کرا کر، معاملہ سے ہٹانا، باز رکھنا۔ ـــ ت فلاناً بغیتُہٗ: کا مطلب فوت ہو جانا، کہا جاتا ہے: تکلّم فانکعہٗ: اس نے بات کر کے اس کو خاموش کر دیا۔ شرب فانکعہٗ: اس نے پی تو شراب نے اس کا مزہ کرکرا کر دیا۔ النُکَعۃ: بیوقوف جو بیٹھ کر جم جائے۔ المُنکَع: پیچھے لوٹنے والا۔ انفٌ مُنکَعٌ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چپٹی ناک۔
۲۔ نَکِعَ ـــ نَکَعًا: سرخ فام چھلی ہوئی ناک والا ہونا۔ النَکِع: سرخ فام چھلی ہوئی ناک والا۔ احمرُ نَکِعٌ: بہت سرخ۔ النَکَع: سرخ رنگ سرخی مائل سیاہ رنگ مرد۔ نَکَعَةُ الانف: ناک کا کنارہ۔
النُکَعَة: سرخ رنگ ناک چھدا مرد، ناک کا کنارہ، سرخ رنگ کے درخت کا پھل، قتاد نامی درخت کا گوند، انسان کی سرخی ملی ہوئی سیاہی۔ الأَنکع: سرخ فام نک چھدا آدمی۔

نکف: ا۔ نَکَفَ ـُـ نَکْفًا عن کذا: پر ناک بھوں چڑھانا، سے باز رہنا، الگ ہونا، صفت: نَاکِف۔ نَکِفَ ـــ نَکَفًا منه او عنه: پر ناک بھوں چڑھانا، سے باز رہنا، بیزار ہونا۔ ـــ الرجُلُ: حلق کے درد سے جبڑے کی دو آگے کو نکلی ہوئی ہڈیوں والا ہونا ـــ تِ الیدُ: ہاتھ میں درد ہونا۔ نَکِفَتِ الابلُ: اونٹوں کے جبڑوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں ظاہر ہونا۔ انْکَفَ هُ: کو پاک کرنا۔ ـــ اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ اِنْتَکَفَ الرجُلُ: بیزار ہونا۔ اسَنْکَفَ الرجُلُ: تکبر کرنا۔ ـــ من کذا: سے تکبر اور کٹر پن کی وجہ سے باز رہنا۔ رجُلٌ نِکُفٌ: حقارت سے دیکھا جانے والا مرد۔ النَکَف (مص) واحد نَکَفة: جبڑے کی جڑ میں چھوٹے چھوٹے غدود۔ النَکَفَة: کان کا درد۔ النُکفتان و النُکُفَتَان جمع نکَفات: جبڑے کی دو آگے نکلی ہوئی ہڈیاں۔ النُکَاف (طِب): اونٹ کے حلق کا ایک مرض جس سے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ بچوں کی جبڑے کی جڑ میں کان کی لو کے قریب غدودوں کے بڑے ہو جانے کی بیماری عام لوگ اسے ابُو کُعَیْب کہتے ہیں۔ المَنْکُوف (مفع): نکاف کی بیماری والا۔

۲۔ نَکَفَ ـُـ نُکْفًا فلانٌ الغیثَ: کسی سے بارش کا منقطع ہونا۔ هذا غیث لاینکفُهُ احدٌ: اس بارش کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ کب رکے گی۔ غیثٌ لایُنکَف: لگاتار بارش جیش او بحر لایُنکَف: بے شمار فوج۔ بے پایاں سمندر۔ ـــ الدَمْعَ: انگلی سے آنسو رخسار سے صاف کرنا۔ نَاکَفَ مُنَاکَفَةً هُ الکلامَ: کوتر کی بتر کی جواب دینا۔ تَنَاکَفُوا الکلام: آپس میں باری باری سے گفتگو کرنا۔ اِنْتَکَفَ الغیثُ: سے بارش کا منقطع ہونا۔ ـــ القومُ: قوم کا ایک ملک سے دوسرے ملک میں نکل جانا۔ ـــ الیه: کی طرف مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ انتکفتُ له فضربتُهُ: میں نے اس کی طرف جھک کر اس کو چوٹ لگائی۔ ـــ الحبلُ: رسی کا کھل جانا۔ ـــ العَرَقَ عن جبینه: پیشانی سے پسینہ پونچھنا۔

○ نَکَفَ ـُـ نُکُفًا هـ: کو روکنا، کی رفتار و ترقی روکنا۔ ـــ عن: کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، حقیر سمجھنا، کو ٹھکرانا، پر لات مارنا، کو مسترد کرنا۔ لایُنکَف: بہت دلکش، ناقابل مزاحمت، بہت زور دار، لامحدود، بے حد، بے پایاں، اتھاہ۔ نَاکَفَ ہ هـ: کو سے پریشان کرنا، کو سے اذیت دینا، کو سے دق کرنا، کو سے ناک میں دم کر دینا، کو سے برہم کرنا، کو سے تکلیف دینا، کو کی زحمت دینا۔ استنکف: مغرور و متکبر ہونا۔ ـــ من عن: بمعنی نَکَفَ عن: یعنی کسی چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھنا وغیرہ، سے بیزار ہونا، متنفر ہونا، سے سخت نفرت کرنا۔ استنکف هـ: سے بیزار ہونا، متنفر ہونا، سے سخت نفرت کرنا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ ـــ أن: کچھ کرنے سے باز رہنا، احتراز کرنا۔ نَکَفة: کان کے پاس کا غدود۔ نَکَفِی: کان کے پاس کا۔ اِلتهابُ الغدة النکفیة: کان کے پاس کے غدود کا ورم، آماس، سوزش یا جلن۔ نُکَاف: گلے کا ایک مرض کنٹھ مالا، غدودوں کا ورم۔

نکل: ا۔ نَکَلَ ـِـ نُکُولاً عن کذا اومن کذا: سے پیچھے ہٹنا، رکنا، باز رہنا، کچھ کرنے سے بہت بزدلی کرنا، کہا جاتا ہے: نَکَلَ عَنِ العدُو وعن الیمین و عن الجواب: اس نے دشمن کے مقابلہ میں قسم یا جواب میں سخت بزدلی دکھائی۔ ـــ نُکْلَةً بفلان: کو عبرت ناک سزا دینا۔ نَکِلَ ـــ نَکَلاً عن کذا و من کذا: سے پیچھے ہٹنا، باز رہنا یا کچھ کرنے میں سخت بزدلی دکھانا۔ ـــ نکلاً: سزا قبول کرنا۔ نَکَّلَ بِهِ: پر مصیبت نازل کرنا، کو عبرت ناک سزا دینا ـــ هُ عن الشی: کو سے باز رکھنا، یکسو کرنا۔ انْکَلَ هُ عنه: کو سے ہٹانا، دور کرنا۔ النَاکِل (فا): کمزور بزدل۔ النِکْل جمع انْکَال ونُکُول: مضبوط بیڑی، لگام کا لوہا، مہار کہا جاتا ہے: فلانٌ نِکْلُ شرٍّ: فلاں شریروں کا تازیانہ ہے۔ النَکَل: قوی مرد، ہمسروں پر غالب ہونے والا۔ مضبوط سدھایا ہوا گھوڑا، کہا جاتا ہے: فلانٌ نَکَلُ شرٍ: فلاں شخص شریروں کا تازیانہ ہے۔ النُکْلَة: عبرت ناک سزا، کہا جاتا ہے۔ رَمَاهُ بِنُکْلَةٍ: اس نے اسے سخت سزا دی النَکَال: عبرت ناک سزا۔ تنبیہ۔ المَنْکَل: عبرت ناک سزا۔ المِنکَل: سزا کا سامان۔

۲۔ النِکْل: نکل (Nickel) [illegible]

○ نَکَلَ ـِـ نُکُولاً و نَکِلَ ـ نَکَلاً من یاعن: سے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنا، دبکنا، سے پہلو تہی کرنا، سے کنی کترانا، سے گریز کرنا، سے باز رہنا، سے پیچھے ہٹنا، نَکَلَ نَکْلَةً و نَکَّل ب: کو دوسروں کے لئے تازیانہ عبرت بنانا، کو سخت سزا دینا، کو سبق سکھانا۔ سے سختی کرنا، بدسلوکی کرنا، برا برتاؤ کرنا، کو سخت اذیت پہنچانا۔ نَکَّل و انْکَلَ ہ عن: کو سے دور کرنا، دھکیلنا، کو سے پیچھے ہٹانا، کو سے پسپائی پر مجبور کرنا، کو سے پرے رکھنا، کی سے روکنے کیلئے دل شکنی کرنا۔ نِکْل جمع أنْکَال و نُکُول: بیڑی، ہتھکڑی، سنگلی، لگام کا دھانہ۔ نَکَال: عبرت ناک سزا، تنبیہ، تنبیہی نمونہ۔ تَنْکِیل: عبرت ناک سزا، پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا، پسپائی پر مجبور کرنا، حدود کے اندر رکھنا، برا سلوک، اذیت دہی۔

نکم: النُکْمَة: بھاری مصیبت، مصیبت۔

نکه: ا۔ نَکَهَ ـِـ نَکْهًا لفلان وعلیه: کے چہرے پر سانس لینا، پھونک مارنا۔ ـــ نَکْهًا هُ: کے منہ کی بو سونگھنا۔ نَکِهَ ـ نَکْهًا هُ: کے منہ کی بو سونگھنا۔ ـــ الرجلُ: کے منہ کی بو کا بدہضمی کی وجہ سے متغیر ہونا۔ اِسْتَنْکَهَ هُ: کے منہ کی بو سونگھنا، کو منہ کی بو سونگھنے کا حکم دینا۔ اِسْتَنْکَهْتُ الرجُلَ فَنَکَهَ فی وجهی: میں نے اس مرد کو سانس لینے کا حکم دیا تو اس نے میرے چہرے پر سانس لیا۔ النَکْهَة: ایک مرتبہ سانس لینا۔ منہ کی بو۔

۲۔ نَکَهَ ـِـ نَکَهَاتِ الشمسُ: سورج کی گرمی کا سخت ہونا۔

○ نَکْهَة: سانس کی بو، خوشبو، سٹ، بو۔

نکی: نَکَی یَنْکِی نِکَایَةً العدوَّ و فی العدوّ: دشمن کو قتل اور زخمی کر کے اس پر غالب آنا۔ صفت فاعلی: ناک صفت مفعولی: مَنْکِیّ۔ ـــ القرحةَ: زخم کو اچھا ہونے سے پہلے چھیلنا۔ نَکِیَ یَنْکَی نَکًی: شکست کھا جانا، مغلوب ہونا۔

○ نکی دِ نِکَایَةً: نقصان کرنا، نقصان پہنچانا۔ ـــ هُ/فی: کو زخمی کرنا، تکلیف پہنچانا۔ ـــ ب: کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، برہم کرنا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ نِکَایَة: ظلم، تکلیف، نقصان، میلان خاطر، پریشانی، پریشان کن بات، برہمی، جھنجھلاہٹ، شکایت، وجہ شکایت، جذبات کو پہنچائی جانے والی ٹھیس، انتہائی ظلم، قانونی حیلہ جوئی، حیلہ بازی، پرفریب استدلال۔ نِکَایَةً فیه: کی حکم عدولی یا نافرمانی میں، کو کینہ سے نقصان پہنچانے یا کو نیچا دکھانے کے لئے۔ اغلظ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

فیہ النکایة: کوسختی سے گھیر لینا، نرغے میں لینا، کا محاصرہ کرنا، پر ٹوٹ پڑنا، سے سختی کا سلوک کرنا، سے برتاؤ میں ہمدردی، کو قریب نہ پھٹکنے دینا۔ انکی: بدتر، زیادہ نقصان دہ، زیادہ مضر، زیادہ ضرر رساں، زیادہ سختی سے تکلیف پہنچانے والا یا زیادہ سختی، جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا۔

نلّ النُلُل: کمزور بوڑھا۔

نمّ ا۔ نمّ ـــِ نمًّا الحدیثَ چغل خوری کرنا۔ ـــ الحدیثُ بات ظاہر ہونا۔ ـــ الشیُٔ: کی خوشبو پھیلنا۔ ـــ ت الریحُ ہوا کا خوشبو یا زندگی کی حرکت لانا۔ ـــ بین الناس: لوگوں کو بھڑکانا۔ ـــ الکلامَ: کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ النامّ جمع نُمّام: فا۔ النامّة: نامّ کا مونث۔ حرکت، حس، زندگی جان، کہا جاتا ہے: أسْکَتَ اللّٰهُ نَامَّتَهُ: اللہ تعالیٰ نے اسے موت سے ہمکنار کیا۔ النَمُّ (مص) جمع نَمُّون و اِنمّاء و نُمّ چغلخور۔ النَمّة نم کا اسم مرۃ۔ نمّا کا مونث، کہا جاتا ہے۔ سمعتُ نَمَّتَهُ میں نے اس کی آواز سنی۔ النِمّة نم کا اسم نوع۔ النَمَم چغلخوری۔ النمّام واحد نمّامة چغلخور (ن) ایک خوشبودار پودہ۔ النَمُوم: چغلخور۔ النِمِیّ دشمنی، خیانت۔ عیب۔ (کہا جاتا ہے: ما فی الدار نِمِیّ: گھر میں کوئی نہیں) طبیعت، انسان کا جوہر اور اس کی اصل۔ نِمِیّ الرجُل مرد کی طبع۔ النِمِیّة: نِمِیّ کا واحد۔ طبیعت۔ النَمِیم و النَمِیمة جمع نَمائم چغلخوری، حرکت۔ لکھنے کی آواز، لکھائی۔ گفتگو کی بھنبھناہٹ۔ النِمّ: چغلخور۔

۲۔ النَمّة: سیاہی میں سفیدی یا سفیدی میں سیاہی کی جھلک یا چمک۔ النِمّة جوں النَمِیّة فاختہ۔

۳۔ نَمْنَمَ ہ کو مزین و منقش کرنا۔ ـــ ت الریحُ الرملَ او الماءَ ہوا کا ریت یا پانی کو دھاریدار بنانا۔ ـــ کِتابَهُ: کتاب (کا خط) باریک لکھنا۔ النِمْنِم: ریت یا پانی پر ہوا کی بنائی ہوئی دھاری۔ ـــ و النُمْنُمُ: واحد نِمْنِمَة و نُمْنُمة جوانوں کے ناخنوں پر کی سفیدی۔ النَمْنَمَة (ف ج) ایک صفحہ پر یا ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کے کسی صفحہ پر عمدہ تصویر کشی۔ النُمْنِیم: مٹی یا پانی پر ہوا کی بنائی ہوئی دھاری۔ المُنَمْنَم نقش دار کتاب۔ ـــ عند العامة عمدہ اور چھوٹی سوزن کاری کیا ہوا۔ ثَوبٌ مُنَمْنَم دھاریدار اور نقش دار کپڑا۔ نبتٌ مُنَمْنَمٌ آپس میں الجھی ہوئی نباتات۔ کِتابٌ مُنَمْنَم: منقش کتاب۔ ناقة مُنَمْنَمَة فربہ اونٹنی۔ وجهٌ مُنَمْنَمٌ تیکھے نقوش والا چہرہ۔ جاریةٌ مُنَمْنَمة تیکھے نقوش والی لڑکی۔ المُنَمْنِم: تصویر کشی کرنے والا۔ المُنَمْنِمة (ف ج): نقش و نگار (صفحہ یا ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کے)

○ نَمّ ـــُ عن / علی: کو ظاہر کرنا، افشا کرنا، دکھانا، کا ثبوت ہونا، پر دلالت کرنا۔ ـــ عن: کی گواہی دینا۔ ـــ ہ علی: کے بارے میں ہتک آمیز انداز میں کسی بات کی اطلاع دینا۔ ـــ بین: کے مابین اختلاف رائے، ان بن، نزاع یا نااتفاقی کا بیج بونا۔ نَمّ: بہتان، تہمت، اتہام، افترا، افترا پردازی، بہتان تراشی، جمع نَمُّون و اِنمّاء چغلخور، بدگو، مفتری، تہمت تراش، بدنام کرنے والا، بدنامی کی باتیں پھیلانے والا، طوفان اٹھانے والا۔ نِمّة: جوئیں ڈینگر، چلوا۔ نَمّام: پودینہ کی ایک قسم، تہمت تراش، مفتری، بدنام کرنے والا، طوفان کھڑا کرنے والا۔ نَمِیمة جمع نَمائم: بہتان، تہمت، اتہام، رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی، افترا، بدگوئی۔ نامّة: ہل چل، کھلبلی۔ زندگی، سرگرمی، تگ ودو، دوڑ دھوپ۔ مُنَمْنَمة: چھوٹی تصویر، چھوٹی مورتی، مختصر تصویروں کی نقاشی، چھوٹے پیمان کی مختصر تصویر یا نقشہ۔

نما: النَمْء و النَمَاء چھوٹی چھوٹی جوئیں۔

نمر ا۔ نَمَرَ ـُ نَمْرًا فی الجبل پہاڑ پر چڑھنا۔

۲۔ نَمِرَ ـــَ نَمَرًا الرجُلُ غضبناک و بدخلق ہونا۔ ـــ السحابُ بادل کا چیتے کے رنگ کا ہو جانا۔ نَمَّرَ تَنْمِیرًا غضبناک ہونا، بدخلق ہونا۔ و وجهَهُ: چہرے کو ترش رو کر دینا، ناک بھوں چڑھانا، تیوری چڑھانا۔ تَنَمَّرَ غضبناک ہونا، بدخلق ہونا۔ رنگ یا خلق میں چیتے کی طرح ہونا، دھمکی دیتے وقت آواز بلند کرنا۔ ـــ لفلانٍ پر بگڑنا، خفا ہونا۔ النامِرَة و النامُورَة بھیڑیا وغیرہ شکار کرنے کے لئے لوہے کا کانٹا۔ النامُور خون۔ النَمِر و النِمْر و النَمْر جمع اَنْمُر و اَنمار و نُمُر و نِمار و نِمارة و نُمُور و نُمُورَة و نُمْر (ح) چیتا۔ اس کی کنیت۔ ابو الأسْوَد و ابو الابرد ہے۔ اور بھی کنیتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے: لَبِسَ فلانٌ لفلانٍ جلدَ النمر فلاں نے فلاں کا دل توڑ دیا، وہ اس سے برگشتہ ہو گیا، بیگانہ ہو گیا۔ النُمْرَقِع نَمِر زاغ کہا جاتا ہے: به نَمِرَة من غیر لونه اس پر اس کے رنگ سے مختلف رنگ کا داغ ہے۔ النَمِرَة جمع نِمَر چیتے کی مادہ، ایک دوسرے سے ملے ہوئے بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ ـــ جمع نِمار ریشمی شال یا چادر یا کھیس سیاہ سفید دھاریوں والی اون کی چادر، سرخ یا پیلے حاشیہ کی سیاہ چادر، لوہے کا کانٹا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ سیاہی و سفیدی، الأنْمَر م نَمْراء جمع نُمْرٌ سیاہ و سفید داغ والا۔ ـــ من الخیل و النعَم: سفید و سیاہ دھبوں والا گھوڑا اونٹ یا مویشی، مختلف رنگ کے بادل۔ أسَدٌ أنْمَرُ: بھورے اور کالے رنگ کا شیر۔ طَیْرٌ مُنَمَّر پرندہ جس میں سیاہ نقطے ہوں۔

۳۔ انمَرَ صاف پانی پانا۔ النِمْر جمع انمار: صاف ستھرا پانی، بے داغ حسب۔ بہت۔ ـــ من الماء زود ہضم پانی خواہ میٹھا ہو یا نہ ہو۔ النَمِیر صاف ستھرا پانی، بے داغ حسب (کہا جاتا ہے: ماء نمیر و حَسَبٌ نمیرٌ: صاف پانی۔ بے داغ حسب) بہت۔ ـــ من الماء زود ہضم پانی میٹھا ہو یا نہ۔

۴۔ النُمَر واحد نُمْرَة (ت) نمبر۔ کہا جاتا ہے نَمَّرَ الدفاترَ: اس نے کاپیوں پر نمبر لگائے۔

۵۔ النُمْرُق و النُمْرُقة و النَمْرَق و النَمْرَقَة و النِمْرِق و و النِمرِقة چھوٹا تکیہ۔

○ تَنَمَّرَ لِ: سے ناراض ہونا، پر غصے ہونا۔ تَنَمَّرَ چیتا بن جانا، زبان درازی کرنا، اینٹھ کر چلنا، رعب جمانا، تحکمانہ انداز اختیار کرنا۔ نَمِر صاف، پاک، صحت بخش (خصوصاً پانی) انمر م نَمْراء جمع نُمْر: دھبے دار، دھاریدار، چیت کبر، لہرے دار۔ نُمْرَہ و نِمْرَة جمع نُمَر و نِمَر نمبر (Number) تصویر، نقش، مجسمہ، شکل، نقشہ۔ نِمْرَة وَاحِدَ: بہترین، نہایت عمدہ، اے ون، بہت عمدہ اعلیٰ۔ نَمّار جمع نَمّارات: نمبر لگانے والا۔ نمبر لگانے والی مشین۔ تاریخ چھاپنے والی مشین۔ تنمیر نمبر لگانا، طریق شمار، گنتی۔ مُنَمَّر: نمبر لگا ہوا، شمار کردہ۔ نَمَّرَ ہ پر نمبر لگانا، کو ایک نمبر مہیا کرنا۔

نمس ا۔ نَمَسَ ـــِ نَمْسًا السرَّ راز کو چھپانا۔ ـــ الرجُلَ: سے چپکے چپکے باتیں کرنا۔ نَمَّسَ علیه الامرَ: کیلئے معاملہ خلط ملط کرنا۔ پیچیدہ کرنا۔ نَامَسَ مُنَامَسَة فلانًا: سے سرگوشی کرنا، سے چپکے چپکے باتیں کرنا۔ ـــ الصائدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا۔ تَنَمَّسَ الامرُ: کام کا خلط ملط ہونا، پیچیدہ ہونا، مبہم ہونا۔ ـــ الصائدُ گھات اختیار کرنا۔ اِنْمَسَ اِنْمَاسًا الرجُلُ اپنے آپ کو چھپانا، چھپنا۔ ـــ فی الشیٔ میں داخل ہونا۔ النامُوس جمع نوامیس راز دار کہا جاتا ہے: فلانٌ ناموس الامیر فلاں شخص حاکم (امیر) کا راز دان ہے۔ شکاری کی گھات کی جگہ، راہب کا گھر۔ شیر کی ماند، شکاری کا جال، وحی، شریعت۔ ـــ عند العامة عزت، کردار۔ الاکبر:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جبریل۔ النَامُوسَة: شیر کی ماند۔ المُنَامِس: سرگوشی کرنے والا۔ رازدار۔ ہمراز۔ محرم۔

۲۔ نَمَسَ ـِ نَمْسًا بین القوم: قوم میں فساد ڈالنا۔ نَمِسَ ـَ نَمَسًا السمنُ و کلّ طیبٍ و دهنٍ: گھی، خوشبو یا تیل وغیرہ کا خراب ہونا۔ صفت نَمِس: نَمَّسَ الشَعَرُ: بالوں کا چکنائی سے میلا ہونا۔ ـــ السمنُ او الجُبْنُ: گھی کا یا پنیر کا بدبودار ہونا صفت۔ مُنَمَّس۔ أَنْمَسَ بین القوم: قوم میں فساد ڈالنا۔ النَامُوس جمع نوامیس: جھوٹا۔ چغلخور۔ دھوکا فریب، خفیہ حیلہ، حاذق۔ النَمَس: گھی و خوشبو وغیرہ کی خرابی۔ دودھ اور چربی کی باس۔ النَمَسَة: بدبو۔ النَمَّاس: چغل خور۔

۳۔ النَامُوس جمع نوامیس (ح): چیونٹی کی طرح ایک کیڑا۔ مچھر، پشہ۔ النَامُوسيَة: مچھردانی۔ النِمْس جمع نُمُوس (ح): نیولا۔ النَمَس: واحد نَمَسَة: (ح) مرغی کی جوں جو اسے بہت تکلیف دیتی اور بعض اوقات اسے مار ڈالتی ہے۔ الأَنْمَس م نَمْسَاء جمع نُمْس: مٹیالا۔

○ نَمَسَ ـِ نَمْسًا ہ کو پوشیدہ رکھنا، چھپانا۔ ـ ہ: کو راز کی باتیں کہنا، کو راز دار بنانا، پر بھروسا، اعتبار یا اعتماد کرنا۔ نَامَسَ ہُ: کو راز کی بات بتانا۔ نِمْس واحد نِمْسَة جمع نُمُوس: ایک قسم کا نیولا، راسو، منکس۔ نامُوس جمع نوامیس: عیار، چالاک، مکار، حیلہ باز، ہوشیار، فریبی، راز دار، ہمراز، معتمد علیہ (اسم جمع واحد ناموسة) مچھر، قانون، شریعت، قاعدہ، عزت، آبرو، نِمْسا و النِمْسا: آسٹریا (Austria) نِمساوی (صفت و اسم) آسٹریا کا، آسٹریا کا باشندہ۔

نمش: نَمَشَ ـُ نَمْشًا: چغلی کھانا، جھوٹ بولنا۔ ـــ الكلامَ: جھوٹی بات بنانا۔ ـ الجرادُ الارضَ: ٹڈی کا زمین کی سبزی کو چر جانا۔ ـــ من الارض: زمین سے کچھ اٹھانا۔ ـــ ـِ ہُ: کو منقش کرنا۔ نَمِشَ ـَ نَمَشًا: دھاریدار ہونا صفت أَنْمَش و نَمِش۔ نَمَّشَ فی اذنه: سے کانا پھوسی کرنا۔ أَنْمَشَ الرجُلُ: چغلخوری کرنا۔ أَنْمَشَ بینهم: لوگوں میں فساد ڈالنا۔ النَمْش (مص): چکنی چپڑی بات۔ النَمَش (مص): جلد کے سفید یا سیاہ نقطے یا داغ دھاری نقش و نگار کے خطوط۔ النَمِش: دھاریدار۔ سیفٌ غِشٌ: جوہردار تلوار۔ وجهٌ نَمِش: داغ دھبے والا چہرہ۔ الأَنْمَش م نَمْشَاء جمع نُمْش: داغدار، دھبے دار۔ عنزٌ نَمْشَاء: داغ دھبے والی بکری۔ رجُلٌ مُنْمِشٌ: مفسد آدمی۔

○ نَمِشَ ـَ نَمَشًا: داغ دھبے دار ہونا۔ نَمَش (اسم جمع، واحد نَمَشَة): ہلکے بھورے داغ، جھائیاں، نَمِش: داغ دار، دھبے دار۔ جھائیوں والا۔ أَنْمَش م نَمْشَاء جمع نُمْش: ہلکا بھورا داغدار، دھبے دار، جھائیوں دار۔

نمص: ا۔ نَمَصَ ـُ نَمْصًا الشَعَرَ او النبتَ: بال یا پودے اکھیڑنا۔ نَمَّصَ تنمیصًا و تَنَمَّصًا الشعَرَ: بال اکھیڑنا۔ أَنْمَصَ النبتُ: پودوں کا جانوروں کے چرنے کے بعد دوبارہ اگ آنا۔ تَنَمَّصَتِ الماشيةُ: مویشی کا پہلی سبزی چرنا۔ ـــ ت المرأةُ: عورت کا پیشانی کے بال اکھیڑنے کے لئے ان کو پکڑنا۔ النَمَص: بالوں کی نرمی و ملائمت۔ چھوٹے چھوٹے پر، ابتدائی پودے۔ سبزہ۔ ایک قسم کی نرم گھاس جس سے طباق اور خوان پوش بناتے ہیں۔ النَمِيص: اکھیڑے ہوئے بال۔ ـ من النبت: سبزی جو مویشی کے چرنے کے بعد پھوٹے یا مویشی اسے منہ سے اکھیڑے۔ المِنْمَص و المِنْمَاص: موچنا۔

۲۔ النِمَاص: سوئی کا دھاگہ۔ النُمَاص: جمع نُمُص و أَنْمِصَه: مہینہ۔

نمط: نَمَّطَ تنمیطاً لفلان الشئَ و علی الشئ: کی چیز کی طرف رہنمائی کرنا، کو چیز کی طرف لیجانا۔ کو کسی چیز کا راستہ دکھانا۔ أَنْمَطَ لَهُ العطاءَ: کو تھوڑی بخشش دینا۔ النَمَط: لوگوں کی جماعت جن کا معاملہ ایک ہو ـــ جمع أَنْمَاط و نِمَاط۔ نسبت کیلئے أَنْمَاطِيّ و نَمَطِيّ: غالیچہ، ٹوکرے جیسی چیز۔ ہودج پر ڈالنے کا اونی کپڑا۔ طریقہ، راستہ، نوع، کہا جاتا ہے: هذا من نمط هذا: یہ اس نوع کا ہے۔ یہ اس طریقہ پر ہے۔ ما عِنْده نمط من العلم: اس کے پاس علم کی کوئی قسم نہیں۔ الأَنْمَط: طریقہ۔

○ علی نَمَطِ: کے طریقہ، انداز یا اسلوب پر۔ علی هذا النَمَط: اس طور پر، اس طرح پر، اس طریقہ پر، حديثُ النمط: نئے فیشن کا، نئے رواج کا، نئی وضع قطع کا، موجودہ زمانے کا، عصر حاضر کا، جدید۔ عتيق النمط: پرانے فیشن، رواج یا وضع قطع کا، جس کا رواج نہ رہا ہو، دقیانوسی، هم علی نمط واحد: وہ سب ایک جیسے ہیں۔ وہ ایک ہی قسم کے ہیں۔ نَمَطِي: رسمی، ظاہری، رسمی، ضابطے کا، سخت، بے لوچ، تصنع بھرا۔

نمغ: النَمَغَة: پہاڑ کی چوٹی، مال کی کثرت، قوم کے چیدہ، برگزیدہ، منتخب ممتاز یا درمیانے لوگ۔ پیدائش کے موقع پر بچے کی برآمد ہونے والی چندیا النَمَّاغة: سر کا بالائی حصہ، بچے کا نرم حرکت کرتا ہوا تالو، چندیا۔

نمق: ا۔ نَمَقَ ـُ نَمْقًا الكتابَ: کتاب لکھنا۔ نَمَّقَ الكِتَابَ: کتاب کو خوبصورت لکھنا۔ ـــ الجلدَ: کھال کو منقش کرنا۔ النَمَق: کتاب۔ نَمَقُ الطريقِ: سڑک کا درمیانی حصہ۔ ثوبٌ نَمِيقٌ: منقش کپڑا۔ التَنْمِيق: آرائش۔ المَنْمَق: آراستہ جگہ۔ ثوبٌ مُنَمَّق: منقش کپڑا۔ مکان مُنَمَّقٌ: آراستہ جگہ۔ المُنَمِّق: خانہ آرا، ماہر آرائش، جس کا پیشہ مکانوں کو آراستہ کرنا ہو۔

۲۔ نَمَقَ ـُ نَمْقًا عینَ فلان: کی آنکھ پر تھپڑ مارنا۔

۳۔ أَنْمَقَتِ النَخْلَةُ: کھجور کے درخت کا بے گٹھلی کھجوروں والا ہونا۔

۴۔ النَمَقَة: بدبو۔

○ نَمَّقَ ہ کو سجانا، کی تزئین کرنا، آراستہ کرنا، آراستہ پیراستہ کرنا، مزین کرنا، کی زیبائش کرنا، کو خوبصورت یا خوشنما بنانا، کو خوبصورت اور بہت اونچے طرز سے لکھنا، متن لکھنا، ترتیب دینا۔ تَنْمِيق: تزیبائش، سجاوٹ، تزئین، آرائش، تجمید، تنویر، سربلندی، سرفرازی۔ توقیر و ترقی (صنائع بدائع سے) تفصیلی تزئین، (متن کی) تحریر جو خوبصورت انداز سے لکھی گئی ہو۔ مُنَمَّق: سجایا ہوا، آراستہ پیراستہ، خوبصورت، شاندار، عمدہ پیرایہ میں، مرصع، صنائع بدائع سے بھرا ہوا (متن، زبان)۔

نمل: ا۔ نَمَلَ ـُ نَمْلًا و نَمِلَ ـَ نَمَلاً و أَنْمَلَ: چغلی کھانا۔ النَامِل (فا): چغلخور۔ النَامِلَة: مونث النامل۔ النَمِل: چغلخور۔ النَمْلَة: جھوٹ۔ ـ (نون کی تثلیث کے ساتھ) چغلوری۔ النَمَّال: چغلخور۔ النَمِيلَة: چغلخوری۔ المُنْمَل و المُنْمِل: چغلخور۔

۲۔ نَمَلَ ـُ نَمْلاً فی الشجر: درخت پر چڑھنا۔ نَمِلَ ـــ نَمَلاً ت يَدُهُ: کے ہاتھ کا سن ہونا۔ ـــ نَمْلاً و أَنْمَلَ فی الشجر: درخت پر چڑھنا۔ تَنَمَّلَ القومُ: حرکت کرنا، بعض کا بعض میں گھسنا۔ النَامِلَة: عام چلتا ہوا راستہ۔ النَمْل: پہلو کی پھنسیاں۔ ـــ و النَمْلُ واحد نَمْلَة و نَمُلَة: (مذکر و مونث کیلئے) جمع نِمَال (ح) چیونٹی۔ النَمِل: چغل خور۔ بہت چیونٹیوں والی (جگہ)۔ کہا جاتا ہے: مکانٌ نَمِل و ارض نَمِلَة: بہت چیونٹیوں والی جگہ، بہت چیونٹیوں والی زمین۔ فرسٌ نَمِل او نَمِلُ القوائم: شوخ گھوڑا۔ جو نچلا کھڑا نہ رہے۔ رجُلٌ نَمِلٌ او نَمِل الأصابع: پھرتیلا آدمی۔ النَمْلَة: پہلو کی پھنسیاں، ایک سوزش دار پھنسی جو جگہ بدلتی رہے۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ ذو نُمْلَة: بہت حرکت کرنے والا گھوڑا۔ النَمَلان: کسی چیز کے اوپر سے جھانکنا۔ النَمْلَى من

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

النساء: ایک جگہ نہ ٹھہرنے والی عورت۔ الأُنْمُلَة والأَنْمَلَة والإنمِلَة والأَنْمَلَة والأَنْمِلَة او الأُنْمُلَة والإنمَلَة: ہمزہ ومیم کی تثلیث کے ساتھ) جمع أنَامِل و انمَلات: (ان دونوں حرفوں کی تثلیث کے ساتھ)۔ انگلیوں کا سرا، بعض کے نزدیک: انگلی کا اوپر کا پورا جس میں ناخن ہوتا ہے۔ المُنْمَل والمُنَمَّل: لکھا ہوا، گنجان لکھا ہوا۔ المُنَمَّلة من النساء: ایک جگہ نہ ٹھہرنے والی عورت۔ المنمُول: زبان، طعام منمول: چیونٹیوں کا خراب کیا ہوا (کھانا)

۳۔ النَمْلَة: جانور کے گھر کی پھٹن۔ النُمْلَة: حوض کا بقیہ پانی۔

۴۔ نَامَلَ نَامَلَةً: قیدی کی طرح چلنا کہا جاتا ہے: هو يُنَامِلُ في قيده: وہ قیدی کی طرح چلتا ہے۔

⊙ نَمِلَ ۔ نملاً: کو جھنجھناہٹ ہونا، کو خراش ہونا، سن ہونا، شل ہونا، بے حس ہونا۔ نَمْلِي: چیونٹی جیسا، چیونٹی کا، نَمْلِيَة: نعمت خانہ، (گوشت یا خوراک کا)۔ نَمَل: خارش، گدگدی، جھنجھناہٹ، چبھن، نَمِل: رینگنے والا، رینگتے ہوئے چلنے والا، گھسٹنے والا۔ پیٹ کے بل چلنے والا۔ بہت آہستہ چلنے والا۔ کیڑوں مکوڑوں سے بھرا ہوا، تیز ہوشیار، چالاک۔ انمُلة جمع انامل: پور۔ مَنْمُول: کیڑوں مکوڑوں سے بھرا ہوا۔ تَنْمِيل: کھجلی یا خارش ہونا، گدگدی، جھنجھلاہٹ، جھرجھری، چبھن۔

نمه: نَمِهَ ۔ نَمَهًا: حیرت زدہ ہونا۔ صفت نَامِه ونَمِه۔

نمو: نَمَا يَنْمُو نُمُوًّا: زیادہ ہونا، بکثرت ہونا، بلند ہونا۔ الخضابُ: خضاب کا سرخی یا سیاہی میں زیادہ ہونا۔ ۔ الحديث إلى فلان: بات کی کسی کی طرف نسبت کرنا۔ النُمُوّ (مص): افزائش۔ النَمْوَة: زیادتی۔

۲۔ النَمُوذَج: نمونہ۔ الأُنْمُوذَج جمع نموذجات وأنمُوذَجَات: نمونہ۔ (فارسی لفظ)

⊙ نُمُوّ: افزائش، ترقی، بہتری۔ نَمُوذَج ونُمُوذج جمع نموذجات ونَمَاذِج: نمونہ، مثال، قسم، نقش، نظیر، مثل، سادہ کاغذ، ایسی دستاویز جس کے خالی مقامات پر کیے جائیں۔ فارم (Form)۔ نَمُوذَجِي: مثالی، تقلید کے قابل، نمونے کا، معیاری، قابل تقلید، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی۔

نمی: ۱۔ نَمَى يَنْمِي نَمْيًا ونَمِيًّا ونَمَاءً ونَمِيَّةً المالُ وغيرُه: مال وغیرہ کا زیادہ ہونا، بکثرت ہونا۔ ــــ السعرُ: بھاؤ کا چڑھنا، گراں ہونا۔ ــــ الشيءَ على الشيء: کو سے بلند کرنا۔ ــــ النارَ: آگ کو زور سے بھڑکانا۔ ــ الرجُلُ: آدمی کا فربہ ہونا۔ ــ الماءُ: پانی کا چڑھنا۔ ــــ الحِبرُ في الكتاب: روشنائی کا لکھنے کے بعد بہت سیاہ ہونا۔ ــــ الخضابُ في اليدا و الشَعَرِ: خضاب کی سیاہی کا ہاتھ میں یا بالوں پر زیادہ ہونا۔ الحديثُ إلى فلان: بات کا کسی کی طرف منسوب ہونا۔ ــــ فلانٌ الحديثَ إلى فلانٍ: کسی کا بات کو کسی کی جانب نسبت کرنا۔ ــــ الرجُلَ إلى ابيه: کی باپ کی جانب نسبت کرنا۔ ــــ الصيدُ: شکار کا زخمی ہو کر کہیں چھپ کر مر جانا۔ ــ ت الابلُ: اونٹوں کا موٹا ہونا، گرمی میں گھاس کی تلاش میں دور تک نکل جانا۔ نَمَّى تَنْمِيَةً الشيءَ: کو بڑھانا۔ ــــ النارَ: آگ کو زور سے بھڑکانا۔ ــــ الحديثَ الـ ... : بات کی کسی کی جانب نسبت کرنا۔ کسی کو کوئی بات فساد کے ارادے سے پہنچانا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يُنَمِّي احاديث الناس: فلاں شخص لوگوں کی باتیں فساد کے ارادے سے پہنچاتا ہے۔ أنْمَى إنماءً الشيءَ: کو بڑھانا۔ زیادہ کرنا، زیادہ ہو جانا۔ ــــ الصيدَ: شکار کا زخمی ہو کر کسی اوٹ میں مر جانا، اس کی ضد أصْمَى ہے۔ جس کا معنی ہے: شکار کو زخمی کرتے ہی قتل کر ڈالنا۔ كُلْ مَا أَصْمَيْتَ ودَعْ مَا أنميتَ: جس شکار کو تو زخمی کر کے فوراً مار ڈالے اسے کھالے اور اس شکار کو چھوڑ دے جو زخمی ہو کر کسی اوٹ میں مر جائے۔ ــ الحديثَ: بات کو چغلخوری کے طور پر پھیلانا۔ ــ الراعي الابلَ: چرواہے کا اونٹوں کو دور تک لیجانا۔ ــ الكلاءُ الابلَ: اونٹوں کو گھاس کا فربہ کرنا۔ ــــ الكرمُ: انگور کی بیل میں گچھے دار شاخیں ہونا۔ انْمَيْتُ لِفُلانٍ: میں نے فلاں شخص کو تھوڑی غلطی پر چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ بڑی خطا کا ارتکاب کرے جہاں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہو۔ تَنَمَّى تَنَمِّيًا الشيءُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھنا۔ إنْتَمَى إنتماءً فلانٌ إلى ابيه: کسی شخص کا اپنے باپ سے منسوب ہونا۔ ــ البازی: شکرے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بلند ہونا۔ ــــ فلانٌ فوق الوسادة: تکیہ پر بلند ہونا۔ النَامِي (فا): نجات پانے والا۔ النَامِيَة جمع نَوَامٍ: بڑھنے کی طاقت۔ قوت نامیہ۔ مخلوق خدا، نامی کا مونث۔ ــــ من الابل: موٹے اونٹ۔ نَامِيَةُ الكرم: انگور کی خوشہ دار شاخ۔

۲۔ النَمَاة جمع نَمِيٌّ: چھوٹی جوں

⊙ نَمَى ـ نَمْيًا ونَمَاءً ونَمِيَّةً: بڑھنا، زیادہ ہونا، اٹھنا، بلند ہونا، ترقی کرنا، آگے بڑھنا، پھولنا پھلنا، پنپنا، فروغ پانا، پھیلنا، سرسبز ہونا، بارآور ہو، پورے عروج پر ہونا، مالا مال ہونا۔ ــــ الی: سے منسوب کیا جانا، سے منسوب ہونا۔ ــ ه إلى: کو سے منسوب کرنا۔ ــ إلى: کو بتایا جانا، آگاہ کیا جانا، سے بیان کیا جانا۔ ــ الى: کو (خبر کا) پہنچنا، کے علم میں آنا۔ نَمَّى وانْمَى ه: کو بڑھانا، زیادہ کرنا، ترقی دینا، آگے کرنا، چڑھانا (بھاؤ یا قیمتیں) إنْتَمى إلى: کی اصل سے ہونا کی نسل سے ہونا، کی اولاد ہونا، کا رشتہ دار ہونا، سے تعلقات رکھنا، سے ملحق ہونا، کا ہم صحبت ہونا، کی ملک ہونا، کا فرد ہونا، پر انحصار کرنا، پر منحصر ہونا، سے وابستہ ہونا، (کسی تنظیم وغیرہ) کا رکن ہونا، سے متعلق ہونا۔ نماء: افزائش پھیلاؤ، زیادہ، اضافہ، ہم نموئی، بڑھوتری، ترقی۔ نَمِي: بمعنی نماء اِنتماء: رکنیت۔ نَامِية جمع نَوَامٍ: افزائش غیر صحتمندانہ افزائش یا صورت۔ دنبل، پھنسی، پھوڑا، رسولی۔ النوامي السرطانية: سرطانی صورتیں۔ مُنْتَمٍ إلى: کی ملکیت، سے لگاؤ رکھنے والا، سے متعلق، نسبت رکھنے والا، سے منسوب۔ مُنْتَمى: نسل، نسبت، پشت، پیڑھی، اصل، رشتہ داری۔ رکنیت، تعلق، نسبت، الحاق۔

نہ: نَهْنَهَهُ عن الشيء نَهْنَهَةً: کو روکنا۔ ڈانٹنا۔ تَنَهْنَهَ: رک جانا۔ النَهْنَهَة: باریک بناوٹ کا کپڑا۔

نھا: نَهَا يَنْهَاتَهَا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ کہا جاتا ہے: شرب فلانٌ حتى نَهَأَ: فلاں شخص نے پیا یہاں تک کہ وہ پر ہو گیا۔ نَهِيَ يَنْهَأُ ونَهُوَ يَنْهُوُ نَهْأً ونَهَائَةً ونُهُوءًا ونَهُوءَةً ونَهَاوَةً اللحمُ: گوشت کا کچا رہنا، صفت نَهِيءٌ أنْهَأَ اللحمَ: گوشت کو کچا رکھنا۔ ــ الامرَ: کام کو ادھورا کرنا۔ الناهِي: پیٹ بھرا، سیراب النُهُوءَة: کچاؤ۔

نهب: ۱۔ نَهَبَ ـُـ ونَهِبَ ـ نَهْبًا القومُ فلانًا: قوم کا کسی کو برا بھلا کہنا۔ ــ هُ الكلبُ: کتے کا کسی کی ایڑی پر کاٹنا۔ ــ الغنيمةَ: غنیمت لوٹنا۔ نَاهَبَ مُنَاهَبَةً هُ: سے دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔ ــــ القومُ فلانًا: قوم کا کسی کو برا بھلا کہنا۔ ــــ الغنيمةَ: غنیمت لوٹ لینا۔ أنْهَبَ الرجُلُ مالَه: مال کو لٹانا۔ ــ هُ المالَ: کو مال لٹانا۔ تَنَاهَبَ الفرسَانِ: گھوڑوں کا دوڑنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا۔ ــ تِ الابلُ الارضَ: لمبے لمبے ڈگ بھرنا۔ اِنْتَهَبَ النَهْبَ: لوٹ کا مال لینا۔ ــــ الفرسُ الشوطَ: گھوڑے کا گھوڑ دوڑ میں جیتنا۔ کہا جاتا ہے: جوادٌ ينتهب الغايةَ: گھوڑ دوڑ کی حد کے نشان میں پہلے پہنچنے والا گھوڑا۔ النَهْب (مص): ایک قسم کی دوڑ۔ ــــ جمع نِهاب: غنیمت، لوٹ، کہا جاتا ہے۔ هذا زمانُ النهب: یہ لوٹ مار کا وقت ہے۔ النُهْبَة والنُهْبَى والنُهَيْبَى

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والنُّهَّيبَى: لوٹا، غنیمت، لوٹی ہوئی چیز۔ النَّهَّاب: بہت لوٹنے والا۔ المِنْهَب گھوڑ دوڑ جیتنے والا گھوڑا۔ المُنْتَهَب: مصدر میمی بمعنی الانتهاب: لوٹ لوٹنے کی جگہ۔ المَنْهُوب (مفع): فوری واجب الاداء رقم۔ فوری مطلوب۔

۲۔ النَّهَابِر: جہنم۔ ــ والنَّهَابِير واحد نُهْبُرَة ونُهْبُور ونُهْبُورَة: ہلاکتیں، زمین یا ریت کے ابھرے ہوئے مقامات۔ بعض کے نزدیک ٹیلوں کے درمیان کے گڑھے۔ کہا جاتا ہے: غَشِيَ بِهِ النَّهَابِير: اس نے اسے ایک سخت کام پر اکسایا۔ النَّهْبَرَة: لمبی دبلی عورت یا وہ جو قریب الموت ہو۔

۳۔ نَهْبَلَ الرجلُ: مرد کا عمر رسیدہ ہونا، لنگڑا ہونا۔ النَّهْبَل: عمر رسیدہ۔ کہا جاتا ہے: شيخ نَهْبَلٌ وعجوز نَهْبَلَة: عمر رسیدہ بوڑھا یا بڑھیا۔ النَّهْبَلَة: بوجھل چال۔ موٹی اونٹنی۔

ن نَهَبَ ــَـ ونَهِبَ ــَـ نَهْبًا ہ لی لوٹ مار کرنا، ہر چیز لوٹ لینا، جھاڑو پھیرنا، کو بزور قوت لے لینا، نهب الارض و نهب الطريقَ الي: تک کا فاصلہ جلدی یا ہولناک رفتار سے طے کرنا۔ أنْهَبَ ہ ہ کو ہر چیز لوٹ لینے دینا یا جھاڑو پھیرنے دینا۔ ــ ہ ہ کیلئے لوٹ کا مال یا مال غنیمت کے طور پر کچھ چھوڑنا یا کو دینا۔ تَنَاهَبَ ہ (روح، دل) پکڑنا، تھامنا، مٹھی میں لینا، قبضہ میں کر لینا۔ تَنَاهَبَ الارضَ عَدْوًا: زمین پر بھاگتے قدم سے دوڑنا۔ إنْتَهَبَ ہ کو پکڑنا، مٹھی میں لینا، کو قبضہ میں کر لینا، کو لوٹ لینا، چھین لینا، کو آنکھوں سے پھاڑ کھانا، انتهب الطريقَ الي: تک کا فاصلہ فی الفور یا ہولناک رفتار سے طے کرنا نَهْب: رہزنی، ڈاکہ، لوٹ مار کرنا، غارت گری کرنا، تاخت و تاراج کرنا، لوٹ کھسوٹ، لوٹ مار، مال غنیمت، مال غنیمت سمجھ کر قبضہ کر لینا۔ غارت گری، سرپٹ، سرپٹ دوڑ۔ جمع نِهَاب۔ نُهْبًا: رہزنی سے، ڈاکہ سے۔ نُهْبَة: مال غنیمت، لوگوں کا مال، نُهْبَى بمعنی نُهْبَة، نَهَّاب: ڈاکو، رہزن، لوٹنے والا، تاراج کرنے والا، غارت گر، لٹیرا، قزاق۔ نُهْبُرَة: جہنم، پاتال۔

نہت: ۱۔ نَهَتَ ــِـ نَهِيتًا ونُهَاتًا ونَهِيتًا الاسدُ او الحمارُ او الرجلُ: شیر کا دھاڑنا، گدھے کا رینگنا، مرد کا واویلا کرنا، کراہنا۔ رأيتُهُ يَنْهِتُ كما ينهت القردُ: میں نے اسے بندر کی طرح آواز نکالتے ہوئے دیکھا۔ النَّاهِت (فا) گلا، حلق۔ النَّهَّات: رینگنے والا۔ ــ والمُنَهِّت (ح) شیر

۲۔ نَهْتَر فلان علينا: فلاں نے ہم سے جھوٹ بولا۔ عام لوگ اس معنی میں تَمَهْتَرَ کہتے ہیں۔

نھج: ۱۔ نَهَجَ ــَـ نَهِجَ ــَـ نَهْجًا الرجلُ: ہانپنا۔ أنْهَجَ الدابّةَ جانور پر سواری لیکر اس کا سانس چڑھانا۔ ــ فلانًا: کا سانس چڑھانا۔ النَّهَج والنَّهِيج: ہانپنا۔

۲۔ نَهَجَ ــَـ نَهْجًا الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہوکر نہ پھٹنا۔ صفت۔ نَهِج ــــ نَهْجًا الثوب: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ أنْهَجَ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ ــ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا یا بوسیدہ ہونے لگنا۔ المُنْهَج: جلد بوسیدہ ہونے والا کپڑا۔

۳۔ نَهَجَ ــَـ نَهْجًا الامرَ: امر کو واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ ــ الطريقَ: راستہ پر چلنا۔ ــ نَهْجًا ونُهُوجًا الطريقُ او الامرُ: راستہ یا معاملہ کا واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ أنْهَجَ الطريقُ او الامرُ: راستہ یا معاملہ کا واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ ــــ الطريقَ و الامرَ: راستہ یا معاملہ کو ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ إنْتَهَجَ الرجلُ: چلنا یا واضح راستہ تلاش کرنا۔ ــ الطريقَ: راستہ کو ظاہر کرنا۔ إسْتَنْهَجَ الطريقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ فلانٌ سبيلَ فلان: وہ فلاں شخص کے مسلک پر چلا، اس کا پیرو ہوا۔ طريقٌ ناهجةٌ: واضح راستہ۔ النَّهْج (مص): واضح راستہ، کہا جاتا ہے۔ طريقٌ نَهْجٌ وطُرُقٌ نَهْجَةٌ ونَهَجَاتٌ ونُهُجٌ ونُهُوجٌ: واضح راستہ، (جمع) واضح راستے۔ نَهْجُ البلاغة: بلاغت کا واضح طریقہ۔ حضرت علیؓ کے خطبات پر مشتمل کتاب کا نام۔ المَنْهَج والمِنْهَج والمِنْهَاج جمع مَنَاهِج: واضح راستہ۔ مَنْهَج او مِنهاجُ التعليم او الدروس: نصاب تعلیم، نصابی کتابیں۔

ن نَهَجَ ــَـ نَهْجًا: کارروائی کرنا، کردار ادا کرنا۔ ــ ہ: راستہ اختیار کرنا، راستہ سے جانا۔ ــــ ہ: کو واضح کرنا۔ ـ: کھلا ہوا، واضح ہونا، صاف و بین ہونا۔ ـ ـ نَهْجًا ونَهِجَ ــَـ نَهَجًا: سانس پھولنا، ہانپنا، سانس چڑھنا، دم چڑھنا۔ ــ خِطَّةً: منصوبہ انجام دینا یا جاری رکھنا۔ رویہ اختیار کرنا۔ ــــ على مِنوالِهِ: کی مثال پر عمل کرنا۔ نَهَّجَ ہ: کا سانس چڑھانا، کو ہپانا۔ أنْهَجَ ہ: کا سانس چڑھانا، کو ہپانا۔ ــــ: (معاملہ) کا واضح ہونا۔ ــــ ہ کو واضح کرنا، کی توضیح کرنا۔ إنْتَهَجَ ہ: راستہ اختیار کرنا، راستہ سے جانا۔ إنْتَهَجَ سبيلَهُ و إسْتَنْهَجَ سبيلَهُ: کی مثال پر عمل کرنا، کے نقش قدم پر چلنا، کی تقلید کرنا، پیروی کرنا۔ نَهْج جمع نُهُوج: واضح راستہ، سڑک، طریقہ، طریقہ کار، اسلوب کار، دستور العمل، طرز، ڈھنگ، انداز، طرح، اسلوب۔ نَهْجَ نَهْجَهُ: کی اتباع کرنا۔ … سیدھا راستہ۔ صحیح طریقہ، مناسب انداز۔ نَهْج: ہانپنا، دم چڑھنا، سانس پھولنا۔ نَهِيج: تیز تیز سانس لینا، ہانپنا، دم چڑھنا، سانس پھولنا۔ ناهِج: کھلی ہموار سڑک۔ مَنْهَج و مِنْهَج جمع مَنَاهِج: کھلی ہموار آسان سڑک، انداز، اسلوب، طرز، طریقہ کار، دستور العمل، اسلوب کار، طریقہ، پروگرام، لائحہ کار، نظام العمل، راستہ۔ مَنَاهِجُ البحث: علمی تحقیق کے طریقے۔ مِنْهاج جمع مَنَاهِيج: راستہ، سڑک، طریقہ، پروگرام۔

نھد: ۱۔ نَهَدَ ــُـ نُهُودًا الثديُ: پستان کا ابھرنا۔ ــ ت المرأةُ: عورت کا ابھرے ہوئے پستانوں والا ہونا۔ صفت ناهِد و ناهِدَة۔ ــ ت القربةُ: مشک کا بھرنے کے قریب ہونا۔ ــ نُهُودًا ونَهْدًا الهديّةَ: ہدیہ کو بڑا سمجھنا یا بڑا کرنا۔ ــ للعدوّ والي العدوّ: دشمن سے لڑنے کیلئے جلدی کرنا یا نکلنا۔ ــــ نَهْدًا: اٹھنا۔ ــــ اليه: کیلئے کھڑا ہونا۔ دخل المسجد فنهد الناس يَسْأَلُونَهُ: وہ مسجد میں آیا تو لوگ کھڑے ہوکر اس سے سوال کرنے لگے۔ نَهُدَ ــــ نُهُودَةً الفرسُ: گھوڑے کا عمدہ اور مضبوط ہونا۔ نَهَّدَتِ المرأةُ: عورت کا ابھرے ہوئے پستانوں والی ہونا۔ صفت مُنَهِّد۔ ناهَدَ مُنَاهَدَةً ہ: کا لڑائی میں مقابلہ کرنا۔ أنْهَدَ العطيّةَ: بخشش کو بڑھانا۔ ــ الحوضَ او الاناءَ: حوض یا برتن کو لبالب بھرنا۔ ــ فلانًا: کو اٹھانا۔ ــ تِ المرأةُ: عورت کا ابھرے ہوئے پستانوں والی ہونا۔ تَنَهَّدَ الرجلُ: ٹھنڈا سانس بھرنا۔ تَنَاهَدَ القومُ في الحرب: جنگ میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ إسْتَنْهَدَهُ: کو لڑائی پر اکسانا۔

النَّاهِد جمع نُهَّد ونُهَّدَاء ونُهَّاد (فا) (ح): شیر۔ ــ جمع نَوَاهِد: ابھرے ہوئے پستانوں والی عورت۔ غلامٌ ناهِد: بلوغ کے قریب پہنچنے والا لڑکا۔ النَّهْد (مص) جمع نُهُود: بلند چیز۔ (ح) شیر۔ مضبوط عمدہ گھوڑا، (ع ا): پستان، شریف آدمی، مسکہ۔ النُّهَاد: مقدار، اندازہ۔ هذا نُهَادُ مِئَةٍ: یہ سو کے قریب ہے۔ النَّهْدَاء: ریت کا بلند ٹیلہ۔ حوضٌ او إناءٌ نَهْدان: لبالب بھرا ہوا حوض یا برتن جو چھلکانہ ہو۔ النَّهِيد: گاڑھا مکھن مسکہ۔ النَّهِيدَة: گاڑھا مسکہ۔ المُنَاهَدَة (مص): مخاصمت۔ المَنْهُود اليه: قصد کیا ہوا، جھپٹا مارا ہوا۔

۲۔ تَنَاهَدَ القومُ: ایک دوسرے کے برابر نفقہ نکالنا تاکہ کوئی چیز خرید کر اکٹھے کھائیں، نکالی ہوئی رقم کو النِّهد

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کہتے ہیں۔ ـــ القومُ الشيءَ: کوٹل کرکھانا۔ النِهْد: برابر کا حصہ جو سفر کے ساتھی خرچ کے لئے پیش کریں کہا جاتا ہے: طَرَحَ نِهْدَهُ مع القوم: اس نے قوم کی مدد کی۔

نَهَدَ ـُ نہودًا: (پستانوں کا) گول اور بھرا ہوا ہونا ابھرنا (عورت کا) گداز جسم اور گول اور ابھرے ہوئے پستانوں والا ہونا۔ تَنَهَّدَ: آہ بھرنا، ٹھنڈی سانس لینا۔ تَنَاهَدَ: اخراجات میں حصہ دار ہونا۔ ـــ ہ: کو آپس میں برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ نَهْد جمع نُهُود: پستان، سینہ، چھاتی، بلندی، ارتفاع، ابھار، کوہان، گومڑا۔ تَنَهُّد جمع تَنَهُّدات: آہ۔ نَاهِد: گول بھرا ہوا اور ابھرا ہوا پستان، جوانی کے جوبن میں، گداز جسم، صحت مند، قبول صورت (عورت)

نہر ۱۔ نَهَرَ ـــ نَهْرًا الماءُ: پانی کا زمین پر بہہ کر اپنے لئے نہر بنا لینا۔ ـــ الدمُ: خون کا زور سے بہنا۔ ـــ نهرًا: نہر کھودنا، نہر جاری کرنا۔ ـــ ونَهِرَ ـــ نَهْرًا الحافرُ: کھودنے والے کا پانی تک پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: حفرتُ البئرَ حتى نَهِرتُ: میں نے کنواں کھودا یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا۔ أَنْهَرَ النهرَ: نہر کو وسیع کرنا، نیزہ کے زخم کو وسیع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ـ الدمَ: خون نکالنا، بہانا۔ ـ الدمُ: خون بہنا۔ ـ العِرقُ: رگ کا خون نہ رکنا ـ البطنُ: پیٹ چلنا۔ ـــ الحافرُ: کھودنے والے کا پانی تک پہنچنا۔ ـ الرجُلَ: دن کرنا۔ اِنْتَهَرَ العِرقُ: رگ کا خون بند نہ ہونا۔ نہ رکنا۔ ـــ بطنُهُ: کا پیٹ چلنا۔ اِسْتَنْهَرَ الشيءُ: چیز کا وسیع ہونا۔ ـــ النهرُ: دریا کا اپنے بہنے کے لئے جگہ بنا لینا۔ النَاهُور: بادل۔ النَهْر جمع أَنْهُر وأَنْهار ونُهُر: ندی، دریا۔ جرى النهرُ: دریا بہنا۔ جَفَّ النهرُ: دریا کا خشک ہونا۔ النَهَر: گنجائش۔ دریا۔ کہا جاتا ہے۔ نَهْرٌ نَهِر: چوڑا دریا۔ نهارٌ نَهِرٌ: روشن دن۔ ماءٌ نَهِر: بہت پانی۔ النَهار: عام لوگ اس کی جمع نَهارات بناتے ہیں جمع أَنْهُر ونُهُر: دن۔ فجر کے طلوع سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ یا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ شرع میں صبح سے مغرب تک (رات کی ضد ہے) النَهارِي: ناشتہ۔ الأَنْهَر: اسم تفضیل۔ نهارٌ أَنْهَر: بہت چمکیلا دن (جیسے کہا جاتا ہے لیلٌ أَلْيَل: بہت تاریک رات) الأَنهرانِ من منازل القمر: (فک) چاند کی منزلوں میں العَوّاء و السماك ـ النَهِير: بہت۔ النَهِيرَة: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ المَنْهَر: دریا کے پانی چلنے کی جگہ۔ قلعہ سے پانی باہر نکلنے کی نالی۔ المَنْهُرة: کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: أَمامَ دارِهم مَنْهُرة: ان کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہے۔

۲۔ نَهَرَ ـ نَهْرًا السائِلَ: سائل کو جھڑکنا۔ عام لوگ اسے اس کو بلانے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اِنْتَهَر السائل: سائل کو جھڑکنا۔

۳۔ أَنْهَرَ فلانٌ: بھلائی نہ پانا۔

۴۔ أَنْهَرَ في العَدْو: دوڑنے میں سست ہونا، تاخیر کرنا۔

۵۔ الناهِر والنَهِر: سفید انگور۔ النَهار جمع أَنْهِرة ونُهُر (ح): قطا (پرندہ) کا بچہ (ح) زرالو، نر سرخاب۔

نَهَرَ ـــ نَهْرًا: کثرت سے بہنا، کا دریا بہنا، زور سے نکلنا۔ ـ ہ: کو جھڑکنا، کو غصے کے الفاظ سے نکال دینا، کو چلتا کرنا، کی بات بے پروائی سے مسترد کر دینا، سے سرد مہری کا سلوک کرنا، کو ہانکنا، رگیدنا، اِنْتَهَرَہ: کو جھڑکنا، جھاڑ جھپاڑ کرنا، ہانکنا، رگیدنا۔ نَهْر جمع أَنْهُر وأَنْهار ونُهُور: ندی، دریا۔ جمع أَنْهُر وأنهار: (اخبار کا) کالم۔ مابين النَهرين: میسوپوٹامیا Meso potamia (دریائے دجلہ و فرات کے درمیان کا علاقہ) نهرُ اردن: دریائے اردن۔ نهر السلام: دریائے دجلہ نهر الشريعة: دریائے اردن۔ نَهْرِي: دریائی، ساحلی، لب دریا کا۔ نَهار جمع أَنْهُر ونُهُر: دن، دن کا وقت (فجر سے شام کے دھندلکے تک) یوم بھی دن کو کہتے ہیں مگر یہ ۲۴ گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ نهارا وليلا: دن رات (کو) ليلَ نهارَ: دن رات۔ نِهارٌ أنهر: حیرت انگیز دن۔ نَهارِي: دن یا دن کے وقت کا۔ روزانہ، روزمرہ نَهارِيّات: دن کی خبریں۔ متفرقات (اخبار کے ایک کالم کی سرخی) نَهِير: وافر، فراخ، کشادہ، کافی، بہت، فراواں، کثیر۔ نُهَير جمع نُهَيرات: چھوٹا دریا، ندی، کھاڑی، دریا کی شاخ، نالہ، آبجو، معاونِ دریا۔ إنتهار: جھڑک، جھاڑ، جھاڑ جھپاڑ، سرزنش، استرداد، نامنظوری، بے پروایانہ انکار، گھن، کراہت۔

نہز: نَهَزَ ـ نَهْزًاہُ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ فلانٌ: چیز لینے کے لئے اٹھنا۔ ـــ الشيءُ: قریب آنا۔ المولود للفطام: بچہ کا دودھ چھڑانے کی مدت کے قریب آنا، صفت مذکر ناهِزٌ صفت مونث ناهِزَة۔ الفصيلُ ضرعَ امّه: بچہ کا ماں کے تھن پر ٹکر مارنا۔ ـــ تِ الدابةُ: جانور کا سینہ نکال کر چلنا۔ ـــ ت الدابّةُ برأسها: جانور کا حفاظت کیلئے سر اٹھانا۔ ـــ بالدلو في البئر: کنویں میں ڈول ہلانا تاکہ بھر جائے۔ ـــ الدلوَ من البئر: ڈول کو کنویں سے نکالنا۔ ـــ الرجُلُ: قے کرنے کے لئے گردن لمبی کرنا اور سینہ دبانا۔ ـــ قيحًا: پیپ پھینکنا کہا جاتا ہے: نهزتني اليك حاجةٌ: ضرورت مجھے تمہارے پاس لے آئی۔ نَاهَزَ مُنَاهَزَةً ہُ: کے نزدیک آنا۔ نَاهَزَ الخمسينَ: وہ پچاس کے قریب پہنچا۔ نَاهَزَ الفطام: وہ دودھ چھڑانے کی مدت کے قریب پہنچا۔ ـ الصيدَ: شکار کو جا پکڑنا۔ الفرصةَ: فرصت کو غنیمت جاننا، سمجھنا۔ نَاهَزَتْهُمُ الفُرَصُ: کو موقع ملنا۔ أَنْهَزَہُ: کو دفع، دور کرنا، اٹھانا۔ تَنَاهَزَا: باہم سبقت لیجانے میں مقابلہ کرنا کہا جاتا ہے: تَنَاهَزُوا الفُرَصَ: وہ موقعوں سے استفادہ کرنے کے لئے آگے ہوئے۔ اِنْتَهَزَ الفرصةَ: موقع کو غنیمت جاننا اور اس کے لئے جلدی سے اٹھنا۔ ـ الشيءَ: کو قبول کرنا اور اسے لینے کے لئے شتابی کرنا۔ ـــ في الضحك: بہت ہنسنا۔ ناهِزُ القوم: قوم کا سردار۔ النَهْز (مص): ہاتھ میں لینا، لینے کیلئے اٹھنا، کہا جاتا ہے: نُهْزُهُ كذا: وہ اس کے انداز کا ہے۔ النِهز (ح) شیر۔ النُهْزَة جمع نُهَزٌ: فرصت، کہا جاتا ہے: هو نُهْزَةُ المُختلس: وہ ہر ایک کا شکار ہے۔ النُهاز والنِهاز: مقدار کہا جاتا ہے: هذا نُهازُ ذلك: یہ اس کے اندازے کا ہے۔ النَهّاز: مبالغہ کا صیغہ۔ سینہ نکال کر چلنے والا گدھا۔ المُناهَزَة (مص): مسابقت المُنْهَز من البئر: کنویں کا کامَن۔

نَهَزَ ـــ نَهْزًاہُ: کو دھکیلنا، ریلنا، زور سے دھکیلنا، کو ہانکنا، آگے بڑھانا، کو پسپا کرنا، کو روکنا، سے بچنا، اپنے سے پرے رکھنا۔ نَاهَزَہ: کے قریب ہونا (خصوصاً مجازاً و کنايةً) تک پہنچنا، کو حاصل کرنا، کے قریب ہونا، کے پاس آنا، نزدیک جانا، کو زبردستی لے لینا، پر قبضہ کرنا، نَاهَزَ البلاغ: بلوغت کی عمر کو پہنچنا۔ ناهَزَ الخمسين: پچاس کے قریب قریب ہونا۔ اِنْتَهَزَ الفُرصةَ: فرصت سے فائدہ اٹھانا، موقع سے فوراً فائدہ اٹھانا۔ اِنْتَهَزَہ فرصةً لِ: کو کے موقع یا فرصت کے طور پر استعمال کرنا۔ نُهْزَة: فرصت۔ موقع۔ نَهّازُ الفُرَصِ: کسی موقع سے فوراً فائدہ اٹھانے والا، ابن الوقت مصلحت بین، زمانہ ساز۔ اِنْتِهاز الفُرَص: موقعوں کا اپنے مقصد کیلئے استعمال۔ مصلحت پرستی، زمانہ سازی، ابن الوقتی۔ انتهازي: ابن الوقت، مصلحت بین، زمانہ ساز۔ انتهازية: مصلحت پرستی، زمانہ سازی۔ ابن الوقتی۔

نہس: نَهَسَ ـ ونَهِسَ ـ نَهْسًا اللحمَ: اگلے دانتوں سے گوشت نوچنا۔ ـــ تِ الحيّةُ فلانًا: کو سانپ کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ڈسنا۔ الکلبُ فلاناً: کو کتے کا کاٹنا۔ اِنْتَہَسَ اللحمَ: گوشت کو اگلے دانتوں سے نوچنا۔ ــــ فلاناً: کی غیبت کرنا۔ النَّہس و النُّہَس جمع نِہسان (ح) ایک قسم کا شکاری پرندہ۔ النَّہّاس و النَّہُوس و النِّہْنِہس: دانتوں سے بہت گوشت کاٹنے والا۔ (ح: شیر۔ (ح): بھیڑیا۔ النَّہِیس: کم گوشت والا۔ دبلا۔ المَنْہَس: دانتوں سے بہت گوشت کاٹنے والا، کاٹنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ارضٌ کثیرۃُ المَناہِس: بہت چراگاہوں والی زمین۔ المَنْہُوس (مفع): کم گوشت والا۔ دبلا۔ رجلٌ مَنْہُوسُ القدمین: رگ دار پاؤں والا۔

نہش: ا۔ نَہَشَ ـ نَہْشاً و نَہَشَاناً: کا گوشت اگلے دانتوں سے نوچنا، سانپ کا ڈسنا۔ ـ ہُ الدھرُ: کو زمانہ کا مصیبت زدہ اور مفلس بنانا۔ نُہِشَ و انْتَہَشَ ت اعضاءُ ہ: کے اعضا کا لاغر و دبلا ہونا۔ النَّہَاوِش: مظالم۔ نَہِشُ الیدین او القوائم: ہاتھ پاؤں کا پھرتیلا۔ المَنْہُوش (مفع): مصیبت زدہ دبلا آدمی۔

۲۔ نَہْشَلَ الرجلُ: بوڑھا ہونا۔ ـ الشیءَ: کو حرص سے کھانا۔ ـــ فلاناً: کو دانتوں سے کاٹنا۔ النَّہْشَل مونث نَہْشَلَۃ (ح): بھیڑیا (ح) شکرا۔ بوڑھا فرتوت

نَہَشَ ـِ نَہْشاً ہ: کو دانت سے کاٹنا، کو اچانک کاٹ کھانا، دانتوں سے پکڑنا۔ ـ ہ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کی دھجیاں بکھیرنا، کی صورت بگاڑ دینا، کو مار مار کر صورت مسخ کر دینا۔ نَہّاش: جھلا، زود رنج، طعنہ آمیز، طنزیہ، نشتر آسا، کاٹنے والا، چبھتا ہوا، تیز۔

نہض: ا۔ نَہَضَ ـَ نَہْضاً و نُہُوضاً: کھڑا ہونا۔ ـ عن مکانہ: اپنی جگہ سے اٹھنا۔ ـــ الی عدوِّہ: دشمن پر تیزی سے حملہ کرنا۔ ـــ النبتُ: پودے کا سیدھا کھڑا ہونا۔ ـ للامر: کام کے لئے مستعد ہونا۔ ـ الطائرُ: پرندہ کا اڑنے کے لئے پر پھیلانا۔ ـ نہضاً الشیبُ فی الشباب: بڑھاپا جلد شروع ہونا۔ ناہَضَ مُناہَضۃً قِرْنَہُ: حریف کا مقابلہ کرنا۔ اَنْہَضَ ہُ: کو اٹھانے کے لئے ہلانا اور کھڑا کرنا۔ ـــ تِ الریحُ السحابَ: ہوا کا بادلوں کو چلانا۔ ـ القربۃَ: مشک کو لبالب بھرنا۔ ـ ہُ بالشیءِ: کو کچھ اٹھانے کیلئے تقویت پہنچانا۔ تَناہَضَ القومُ فی الحرب: جنگ میں ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِنْتَہَضَ: کھڑا ہونا۔ ــــ فلاناً للامر: کو کام کے لئے کھڑا کرنا۔ ـ القومُ: لوگوں کا لڑنے کیلئے کھڑا ہونا۔ اِسْتَنْہَضَ ہُ لکذا: کو کسی کام کیلئے اٹھانا، اٹھنے کا حکم دینا۔ الناہِض (فا): اڑنے کے قابل پرندے کا چوزہ کہا جاتا ہے عاملٌ ناھِضٌ: چست مزدور گھوڑے کے بازو کے اوپر کا گوشت۔ مکانٌ ناھِضٌ: اونچی جگہ۔ ناھِضَۃُ الرجُلِ جمع نَواھِض: انسان کے باپ کی اولاد وارث کے خادم جو اس کے لئے غضبناک ہو کر اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کا حکم بجا لائیں۔

النَّہْض (مص): سخت زمین۔ ـــ جمع اَنْہُض من البعیر: اونٹ کے مونڈھے اور کندھے کا درمیان کا حصہ۔ النَّہْضَۃ جمع نِہاض: ایک بار کا اٹھنا، کھڑا ہونا، طاقت، قوت، زمین کی چڑھائی، کہا جاتا ہے: کان منہ نہضۃٌ الی کذا: کی کسی طرف حرکت۔ ہو کثیرُ النَّہَضات: وہ بہت حرکتیں کرنے والا ہے۔ النِّہاض: سرعت۔ ـــ من الطریق: دشوار راستے۔ النَّہّاض: بہت کھڑا ہونے والا۔ گردن۔ مکانٌ نَہّاض: بلند جگہ۔ النَّواھِض: اونٹوں کی ہڈیاں اور مضبوط حصے۔

۲۔ نَہَضَ ـ نَہْضاً فلاناً: پر ظلم کرنا۔ النَّہْض: ناانصافی، ظلم۔

نَہَضَ ـــ نَہْضاً و نُہُوضاً عن: (نشست، بستر وغیرہ) سے اٹھنا۔ ــ ت الطائرۃُ: جہاز کا اڑان کے لئے زمین سے اٹھنا۔ ـــ الی: پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا۔ ـــ ب: کو اٹھانا، اونچا کرنا، لیجانا، جاری رکھنا، کو عمل میں لانا، انجام دینا، دلیری سے حملہ کرنا، ہاتھوں میں لینا، کو ترقی دینا، بڑھانا، کی حوصلہ افزائی کرنا۔ کو قوت دینا، میں نئی زندگی لانا، کے لئے جدوجہد کرنا، کا مقصد لینا، کی تائید کرنا، حمایت کرنا، کی حفاظت کرنا، کیلئے جان لڑا دینا۔ ـــ علی: کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، سے بغاوت کرنا، کے خلاف بغاوت کرنا۔ ـــ ل: کے لئے تیار ہونا، کو شروع کرنا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کا آغاز کرنا۔ ـــــ: (بحث کا) مناسب، موزوں، برجستہ، برمحل یا متعلقہ ہونا۔ نَہَضَ قائماً: وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ـــ نہض بالامر: اقتدار حاصل کرنا، قیادت سنبھالنا، ہاتھ میں لینا، نَہَضَتِ الحجۃُ ب: کے حق میں ثبوت مسلم ہو گیا ہے۔ نَہَضَ بالخسائر و الضحایا: نقصانات اور جانی قربانیوں کی ذمہ داری بخوشی اٹھا لینا۔ ناھَضَ ہ: کا مقابلہ کرنا، کی مخالفت کرنا، کے مقابلہ میں آنا، کو خاطر میں نہ لانا، سے جھگڑا کرنا، اَنْہَضَ ہ: کو اٹھنے کے لئے کہنا، کو جگانا، ابھارنا، ہوشیار کرنا، کی ہمت بندھانا، کو جوش دلانا، میں روح پھونکنا، جوش پیدا کرنا، کو اندر ہی اندر سمجھانا۔ تَناھَضَ: اٹھ کھڑا ہونا، اٹھنا، اِنْتَہَضَ: اٹھنا، اٹھ کھڑا ہونا، [illegible] شہ دینا، میں کے لئے تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا، کو کیلئے جرأت دلانا کی کیلئے ہمت بڑھانا۔ نَہْض: جھنجھوڑ کر چونکا دینے والا حادثہ، انتباہ، افزائش، چڑھائی، اونچا اٹھنا، تجارت کی اچانک گرم بازاری، ترقی۔ نَہْضَۃ جمع نَہَضات: اٹھنا، اٹھ کھڑا ہونا، (قومی) بیداری، افزائش، بازاری ہلچل، تجارتی گرم بازاری، ترقی، پھر سے جی اٹھنا، پھر شاداب ہو کر پھوٹنا، پھر زندہ ہونا، اعادہ، احیاء، دوبارہ رواج پانا، حیات نو، دوسرا جنم، دوسری بار پیدائش، دوسرا روپ، دوسرا ظہور، نشاۃ ثانیہ، علوم وفنون کے احیاء کا زمانہ، احیاء، دور ترقی (روحانی) تحریک، قابلیت، طاقت، بل، زور، استعداد۔ عیدُ النہضۃ: قومی بیداری کا دن جو عراق میں 9 شعبان کو منایا جاتا ہے۔ نُہُوض: اٹھنا، بڑھنا، احیاء، حیات نو، تقویت، تجوید، بحالی، سرفرازی، ترقی، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی۔ نہوضٌ ب: کو چلانا۔ مُناھَضَۃ: مقابلہ، مزاحمت، مخالفت، ناھِض: نکلتا ہوا، اٹھتا ہوا، پھرتیلا، چست، ہوشیار، سرگرم، محنتی، مستعد، طاقت ور، توانا، باہمت۔ دلیلٌ ناھِضٌ: فیصلہ کن ثبوت، زوردار، قوی، معقول یا دل کو لگتی ہوئی شہادت یا ثبوت۔

نہط: نَہَطَ ـ نَہْطاً ہُ بالرمح: کو نیزے سے مارنا۔

نہف: نَہِفَ ـ نَہَفاً الرجلُ: حیران ہونا۔

نہق: ا۔ نَہَقَ ـِ و نَہِقَ ـ نَہْقاً و نَہِیقاً و نُہاقاً و تَنْہَاقاً الحمارُ: گدھے کا رینگنا۔ صفت۔ ناھِق، تَناھَقَتِ الحُمُرُ: گدھوں کا مل کر رینگنا۔ ناھِقُ الحِمار و نَواھِقُہُ: گدھے کا گلا۔ واحد: ناھِقَۃ۔ النَّواھِق و النَّاھِقان (ع ا): کھر دار جانوروں کے جبڑے کی دو ابھری ہوئی ہڈیاں۔ انہیں نواھق بھی کہا جاتا ہے۔

۲۔ النَّہَق (ح): ایک پرندہ۔ ـــ و النَّہَق واحد نَہَقَۃ و نَہَقَۃ (ن): ایک پودا۔

نہک: ا۔ نَہَکَ ـ نَہْکاً و نَہاکَۃً الثوبَ: کپڑے کو پہن کر بوسیدہ کرنا۔ ـــ من الطعام و فیہ ہ: کو بہت کھانا کھانا۔ ـــ عِرضَ فلان: کو بہت گالیاں دینا، کی بہت آبرو ریزی کرنا۔ ـ ہ: پر غالب آنا۔ الضرعَ: تھن کا تمام دودھ لینا۔ ـ ت الحُمّی فلاناً: کو بخار کا دبلا کر دینا۔ ـــ الشرابُ فلاناً: کو شراب کا دبلا کر دینا۔ ـ ت الابلُ ماءَ الحوضِ: اونٹوں کا تالاب کا سارا پانی پی لینا۔ نَہِکَ ـــ نَہَکاً و نَہْکَۃً ہُ: کو سخت سزا دینا۔ ـــ نَہْکاً فلانٌ الشرابَ: شراب ختم کر دینا۔ ـــ نَہْکاً و نَہَکاً و نَہْکَۃً و نَہاکَۃً الحُمّی فلاناً: کو بخار کا دبلا کر دینا۔ نُہِکَ نَہْکاً: لاغر و دبلا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہوناصفت منہوك نَہُكَ ـــُـ نَہَاكَۃً:دلیروبہار ہونا۔ اَنْہَكَ ہٗ کوسخت سزادینا۔کوتھکادینا۔ اِنْتَہَكَتْـہُ الحُمّٰی: کوبخارکالاغرودبلاکرنا۔ ــــ فلانٌ الحرمَۃَ: کاتقدس پامال کرنا۔ ــ الشیٔ کاتقدس ختم کرنا ــ فُلانًا: کی آبروریزی کرنا۔ النَاہِك (فا): ہرچیز میں مبالغہ کرنے والا۔ النَہْك (مص):بحررجز میں دوثلث حذف کرنا۔بقیہ کو منہوك کہاجاتاہےاور یہ مستفعلن مستفعلن پر مشتمل ہوتا ہے۔

النَہْکَۃ:نہك کااسم مرۃ،بیماری کااثرلاغری وکمزوری کی صورت میں۔ بـدت فیـہ نَہْکَۃُ المرض:اس میں بیماری کا اثر یعنی لاغری اور کمزوری ظاہرہوئی۔ النَہُوك: دلیر،بہادر۔ النَہِیك:ہرچیز میں مبالغہ کرنے والا۔دلیر۔ بہادر۔طاقت وراونٹ۔شمشیر بران،کہا جاتا ہے۔ سیفٌ نَہِیكٌ:شمشیر بران۔ المَنْہُکَۃ: کمزوری کاباعث،تھکن وناتوانی کاباعث، کہاجاتاہے:ھذا مَنْہَکَۃٌ للأعراض:یہ آبروریزی کاسبب ہے۔

۲۔ النَہِیك:اچھےخلق والا۔ ــ والنُہَیك (ح): پردار کیڑاجیسےپسوجوجانوروں میں پایاجاتاہے۔

○ نَہَكَ ــَـ نَہَاكَۃً ہ کوصرف کرنا،خرچ کرنا،کوسارا استعمال کرلینا،ختم کرڈالنا،تھکادینا،کوکچل ڈالنا،کا کچومرنکال دینا،کابھرکس نکال دینا۔ ــــ نَہْکًا و نَہِكَ ـ نَہْکًا و نَہْکَۃً ہٗ: کوکمزورکرنا،دبلاکرنا،لاغر کرنا،گھلانا،نحیف کردینا،کےاوسطان خطاں کردینا، کوضائع کرنا،کی طاقت ختم کردینا،کوتھکادینا۔ نَہِكَ ونُہِكَ:خودبخود چلاجانا،تھک جانا،ختم ہوجانا،خرچ ہو جانا،صرف ہوجانا،کمزورہوجانا،پتلا،دبلا،نحیف ونزار ہوجانا۔ نَہَكَ عِرضَہٗ:کوبےعزت کرنا،کی عزت کو ٹھیس پہنچانا، اَنْہَكَ ہ:کوکمزورکردینا،نحیف کردینا،کو تھکادینا،لاغرکردینا،کوبربادکرنا،اجاڑدینا۔ اِنْتَہَكَ ہ: کوبربادکرنا،اجاڑدینا،کمزورکرنا،تھکادینا۔ -- ہ: کی خلاف ورزی کرنا،کی بےادبی کرنا،کی بےحرمتی کرنا،قانون شکنی کرنا،کوغلط یاناجائزاستعمال کرنا،بے عزتی کرنا۔ ــ ھا:(عورت کی)عصمت دری کرنا۔ ــ ہ: کی توہین کرنا،بےعزتی کرنا،ہتک،اہانت،ہتکی کرنا،کوذلیل کرنا،بدنام کرنا،رسواکرنا،کی بدگوئی کرنا، حیثیت عرفی کرنا،کوخواہ مخواہ بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا،پرتہمتیں دھرنا،پرتہمت لگانا،سے بری طرح سے پیش آنا،سے بدسلوکی کرنا،کوگالی دینا،سے سخت کلامی کرنا، پر دشنام طرازی کرنا،کو وحشی بنانا۔ لایُنْتَہَكُ:پکا،استوار،مقدس،جس کی حرمت قائم رکھنی پڑے،حرام،محرم،متبرک،حرمت والا۔ نَہْك:کمزور کرنا،تھکادینا،تھکادینا،فرسودگی، استعمال،صرف، خرچ،خاتمہ،خرچ شدہ مقدار،سخت کمی،سخت تھکاوٹ، غلط یاناجائز استعمال، خلاف ورزی، بےحرمتی، بے عزتی، بدسلوکی، سخت کلامی، دشنام طرازی، دشنام، گالی۔ نَہْکَۃ:سخت تھکاوٹ،لاغری،دبلاپن،ضیاع۔ انہاك: سخت تھکاوٹ،تھکادینا،خالی کرنا۔ اِنْتِہاك: کمزورکرنا،تھکادینا،فرسودگی،خرچ،استعمال،صرف، خاتمہ،سخت کمی،غلط یاناجائزاستعمال،خلاف ورزی، بےحرمتی۔ انتہاك الحُرمَۃ:(مقدس چیزکی)بے حرمتی انتہاك العَوْرَۃ:گناہ جواخلاقی خباثت کانتیجہ ہو۔ مُنْہِك:تھکادینے والا۔

نہل:۱۔ نَہِلَ ـ نَہَلاً ومَنْہَلاً الإبلُ:اونٹوں کاپہلی بارکاپینا۔ اَنْہَلَ الإبلَ:اونٹوں کوپہلی بارپانی پلانا۔ ــ القومُ: قوم کےاونٹوں کاپہلی بارپانی پینا۔ اَنْہَلُوا زَرْعَھُم: کھیتی کوپہلی بارسیراب کرنا۔ النَاہِل (فا) جمع نَہَلٌ ونُہَّل ونُہُول ونَہَلَۃ ونَہْلَی ونِہَال: سیراب۔ النَاہِلَۃ جمع نِہَال و نَوَاہِل:ناہِل کا مونث۔چشمہ کی طرف آنے جانے والے۔ النَہَل (مص):ناہِل کی جمع۔پہلی بارکاپینا۔وہ خوراک جو کھائی جائے۔ النَہْلان جمع نَہْلَی:پینے والا، سیراب۔ المِنْہَال:بہت پانی پلانے والا۔بہت فیاض۔ المَنْہَل جمع مَنَاہِل: گھاٹ،چشمہ پینا، راستہ پرپانی پینے کی جگہ۔

۲۔ نَہِلَ ـ نَہَلاً ومَنْہَلاً الإبلُ:اونٹوں کاپیاساہونا۔ النَاہِل جمع نَہَلٌ ونُہَّل ونُہُول و نَہَلَۃ ونَہْلَی ونِہَال: پیاسا۔ النَواہِل: بھوکےاونٹ۔ النَہْلان جمع نَہْلَی: پیاسا۔ ابلٌ نَہْلَی:بھوکےاونٹ۔

۳۔ اَنْہَلَ فلانًا:کوغضبناک کرنا۔

۴۔ المِنْہَال:اونچاٹیلہ جس کی ریت گرتی رہے۔قبر۔

○ نَہِلَ ـ نَہَلاً ومَنْہَلاً : پینا۔ نَہْلَۃ جمع نَہَلات:پانی، شربت،شراب،پینے کی چیز،بادہ،گھونٹ وہ مقدارجو ایک مرتبہ نگلی جاسکے۔ مَنْہَل جمع مَنَاہِل: پانی پینے کا گھاٹ،چشمہ،جوہڑ۔

نہم:۱۔ نَہَمَ ـِ نَہْمًا ونُہْمَۃً ونَہِیمًا الإبلَ: اونٹوں کو چلنے میں مشاق بنانے کیلئے ڈانٹنا۔ ــــ ـِ نَہْمًا ونَہِیمًا الفیلُ: ہاتھی کاچنگھاڑنا۔ نَاھَمَ مُنَاھَمَۃً ہٗ: کےساتھ مل کرآوازنکالنا۔ اِنْتَہَمَ:جھڑکی کھانا۔ النَاہِم (فا): چیخنے والا،چلانے والا۔ النُہَام جمع نُہُم (ح): الو،راہب۔ النِہامِیُّ والنُہَامِیّ:راہب۔ النَہَّام (ح): شیر۔ النَہَّامَۃ (ح):شیر۔ النَہِیم: ہاتھی کی دھاڑ۔ہاتھی کی چنگھاڑ،شیرکی دھاڑ۔ المِنْہَام من الابل جمع مَنَاہِیم:ڈانٹ پرسدھی ہوئی اونٹنی۔

۲۔ نَہَمَ ـِ نَہْمًا:بہت کھانا۔ نَہِمَ ـ نُہِمَ نَہَمًا و نَہَامَۃً فی الاکل: کھانے میں حریص ہونا۔ ــــ فلانٌ فی الشیٔ:چیزکامشتاق ہونا۔ النَہِم: حریص۔پیٹو۔ النَہْمَۃ (مص): منہم کااسم مرۃ۔ حاجت،سخت خواہش،کہاجاتاہے: لہٗ فی ھذا الامر نَہْمَۃٌ:وہ اس معاملہ کی سخت خواہش رکھتاہے۔ قَضَی منہ نَہْمَتَہٗ: اس نے اس سےاپنی شدیدخواہش پوری کی۔ النَہَّام:مبالغہ کاصیغہ۔شیر۔ النَہَّامَۃ:نَہَّام کا مونث۔شیرنی۔ النَہِیم:حریص پیٹو۔ المَنْہُوم (مفع): حریص۔مشتاق،فریفتہ کہاجاتاہے: ھو منہوم بالمال: وہ مال کاحریص ہے،مشتاق یاپر فریفتہ ہے۔

۳۔ النَہَامِیّ:نون کی تثلیث کےساتھ،لوہار،بڑھئی۔ النِہامِیّ والنُہامِیّ: ہموارراستہ۔ النَہَّام:واضح راستہ کابیچ۔

○ نَہِمَ ـ نَہَمًا ونَہَامَۃً:بےحدبھوکاہونا،بڑالالچی ہونا، سیراب نہ ہونے والاہونا۔ ــــ فی:کاحریص،لالچی ہونا۔ نَہَم :بےحدبھوک،ندیدگی،بہت اشتیاق۔ نَہْمَۃ: بڑھکتی ہوئی خواہش۔طلب،حرص،طمع،لالچ، دلدادگی،شفتگی۔ نَہِم: لالچی،حریص،مشتاق،دلدادہ، شیفتہ،سیراب نہ ہوسکنے والا،بہت بھوکا،ندیدہ،کھاؤ، پیٹو،پرخور،نفیس خوراک کاشائق،خوش خور۔ نَہِیم: لالچی، حریص، طامع، مشتاق، دلدادہ، شیفتہ، بہت بھوکا، ندیدہ، بہت شائق، کھاؤ، پیٹو، پرخور، نفیس خوراک کاشائق،خوش خور۔ مَنْہُوم: لالچی،حریص، مشتاق،دلدادہ،شیفتہ،سیراب نہ ہوسکنے والا۔ ــ ب: کاحریص،کاخواہاں،خواستگار،شائق،طالب۔

نہو : نَہَا یَنْہُو نَہْوًاہٗ: کوروکنا،منع کرنا۔

نَہی:۱۔ نَہَی یَنْہَی نَہْیًا ہٗ عن کذا: کوسے،عمل یاقول سے،روکنا،منع کرناصفت مذکر: ناہٍ صفت مونث ناھِیَۃ اورجس سےروکاجائےوہ مَنْہِی عَنْـہُ ہے۔اسم النُہْیَۃ، ــ اللّٰہُ عن کذا:اللہ کاکسی چیزکوحرام کرنا،کہا جاتاہے ھورجُل نَہَاكَ مِن رجُلٍ: وہ ایک آدمی تیرے لئے کسی بھی ایک سےکافی ہے۔ ھِیَ امرأۃ نَہْتُكَ من امرأۃٍ: وہ ایک عورت تیرے لئے کسی دوسری عورت سےکافی ہے۔ ھما رجلانِ نَہَیَاكَ من رجلین: وہ دومردتیرے لئے کوئی سےدومردوں سےکافی ہیں۔ ھُمْ رجالٌ نَہَوكَ من رجالٍ: وہ مردتیرے لئے کئی مردوں سےکافی ہیں۔ ــــ الیہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الـخبرُ: تک خبر کا پہنچنا۔ (یہ نُہِیَ بصیغہ مجہول سے کم مستعمل ہے) نَهِیَ ـ نَهْیً عن الحاجةِ: حاجت چھوڑ دینا، خواہ اس کو حاصل کیا ہو یا نہ۔ نَهُــوَ یَنْهُــو نَهَاوَةً: جہت ذہین ہونا۔ نُهِیَ الیه الخبرُ: تک خبر کا پہنچنا۔ نَهَّیَ تَنْهِـیَةً ہُ: کو روکنا، منع کرنا۔ ـــ الشئُ: چیز کا نہایت تک پہنچنا۔ ـــ الیه الخبرَ: خبر کو اس تک پہنچانا۔ أَنْهَـی إِنْهاءً الشئَ: چیز کو پہنچانا۔ ـــ الامرَ اِلـی الـحـاکمِ: حاکم کو معاملہ سے مطلع کرنا۔ ـــ الـرجُلُ من اللحمِ: گوشت پر اکتفاء کرنا اور پیٹ بھر کر کھانا۔ کہا جاتا ہے۔ طَـلَـبَ حاجةً حتی أنْهَی عنها: ضرورت کا طالب ہو کر اسے ترک کر دینا، حاصل کر کے یا بلا حصول۔ تَـنَـاهَـی تَـنَاهِیًا الشئُ: چیز کا اپنی نہایت کو پہنچنا۔ ـــ الماءُ: پانی کا تالاب میں رکنا اور ٹھہر جانا۔ ـــ الخبرُ: خبر کا پہنچنا۔ ـــ عن الشئ: سے رکنا۔ ـــ الـقومُ عن المنکر: برے کام سے بعض کا بعض کو روکنا۔ إِنْتَهَـی إِنهـاءً عـن الشئِ: سے رکنا۔ ـــ الشئُ: چیز کا اپنی نہایت کو پہنچ جانا۔ ـــ الیك الـمـثـلُ او الـخـبـرُ: تک ضرب المثل یا خبر پہنچنا۔ ـ بفلان الی موضع کذا: کو کسی جگہ پہنچانا۔ إِسْتَـنْهَـی استـنهـاءً ہُ: کو باز رہنے کے لئے کہنا۔ استنهَیْتُ فلانًا من فلان: میں نے فلاں شخص سے کہا کہ فلاں شخص کو مجھ سے باز رکھے۔ الـنَـاهِی (فا) جمع نُهَـاة: پیٹ بھرا۔ سیراب۔ کہا جاتا ہے: نـاهِـیُكَ بـزیـدٍ فـارسـاً: تمہارے لئے شہسوار زید کافی ہے۔ هـذا رجُـلٌ نـاهیكَ من رجل: یہ آدمی کسی اور آدمی سے تمہارے لئے کافی ہے۔ یہ کلمہ تعجب ہے اور مدح کے موقع پر بولتے ہیں۔ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے ہر تعجب پر بولا جانے لگا۔ اسم فاعل ہونے کی وجہ سے مونث، مثنی اور جمع کے صیغے آتے ہیں، چنانچہ آپ کہتے ہیں۔: هـذه امـرأة ناهیتُك من امرأة وغیره وغیـــره۔ یہ عورت دوسری عورت سے تمہارے لئے کافی ہے صفت ہونے کی وجہ سے نـاهِیك وناهیتُك آتے ہیں۔ الناهیة جمع نواهٍ: ناہی کا مونث۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مالهٗ ناهیة: فلاں شخص کے پاس عقل نہیں جو اسے بری بات سے روکے۔ مـاتنهاهُ عنا نَاهِیَةٌ: جو تم ہم سے روکتے ہو وہ پابندی ہے۔ مـا یـنـظر فی اوامـر الـلّٰه و نواهیه: وہ اللہ کے اوامر و نواہی پر غور نہیں کرتا۔ الــنِهـــاء: چیز کی غایت اور آخر، انداز، مقدار۔ هُـمْ نِهاءُ مائةٍ: وہ سو کے قریب ہیں۔ ـــ مـن الـنهـار والـمـاء: دن اور پانی کی چڑھائی۔ بلندی۔ الـنُهـاء: پانی کی چڑھائی۔ اندازہ۔ مقدار کہا جاتا ہے۔ هُـمْ نُهـاءُ مـائةٍ: وہ سو کے قریب ہیں۔ نفسٌ نُهاةٌ: کسی چیز سے رکنے والا نفس۔ النِهایة جمع نِهــایــات: کسی چیز کی غایت اور آخر۔ آخری حد یا درجہ۔ نِهـایـاتُ الدار: گھر کے حدود۔ الـنَهُوّ: منع کرنے والا۔ هو نهوٌّ عن المنکر امور بلمعروف: وہ برائی سے روکنے والا اور امر بالمعروف کرنے والا ہے۔ الـنَهْیُ (مص) عـنـد النحـاة: نحویوں کے نزدیک طلب ترک فعل اس کے لئے لا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے لاناهیة کہتے ہیں۔ هـل رجُلٌ نَهْیُكَ مِـن رَجُلٍ: کیا کوئی مرد تیرے لئے کسی مرد سے کافی ہے۔ مصدر ہونے کی وجہ سے اس کی تانیث، تثنیہ اور جمع نہیں آتی ـــ والنِهیُ جمع أَنـهٍ وأنْهاء ونُهِیّ ونِهاء: تالاب، یا تالاب نما کوئی چیز۔ النِهی والنِهی جمع نَهُون ونِهُون: کامل العقل۔ هونِهٍ ونِهٍ: وہ کامل العقل ہے۔ الـنُهَـی، النُهْیَۃ کی جمع۔ عقل۔ النُهْـیَة جمع نُهیً: النَهْی کا اسم۔ عقل۔ میخ کے سرے کا سوراخ، چیز کی غایت اور اس کا آخر نـــاقةٌ نِهْیَةٌ: انتہائی موٹی اونٹنی۔ الـنَهِـیُّ جمع أَنْهِیـاء: انتہائی موٹا۔ فـلانٌ نَهِیُّ فلان: فلاں شخص فلاں شخص کو روکتا ہے۔ رجُلٌ نَهِیّ: کامل العقل مرد۔ التّنهاة والتّنهِیة من الوادی جمع تَـنَاهٍ: وادی کا آخری کنارہ۔ التِنْهَاة: سیلاب روکنے کا بند۔ المَنْهاة: نہایت عقل، گناہ سے دور رہنے کی حالت۔ رجُـلٌ مَنْهاةٌ: عقلمند اچھی رائے والا آدمی۔ المُنْتَهَیَ: نہایت،۔ مَـنَاهِیُ الشـرْع: وہ کام جن سے شرع روکتی ہے۔

۲۔ الـنِهاءُ: سفید رنگ کا پتھر جو سنگ مرمر سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ موتیوں کی ایک قسم الـنَهاء: شیشہ۔ صراحیاں، یا لمبی گردن کی بوتلیں۔ النِهَی: شیشہ

○ نَهَـا ـــ نُهُوًا وَنَهَی۔ نَهْیًا ہ عن: کو کچھ کرنے سے روک دینا، منع کرنا، پر کچھ کرنے کی پابندی لگانا، کو سے محروم کرنا، کو کیلئے مردود قرار دینا، نُهِـیَ اِلـی: (خبر کا) کے پاس آنا، تک رسائی حاصل کرنا، تک پہنچنا، کے علم میں آنا۔ أَنْهَـی ہ الـی: کو تک لیجانا، کو تک پہنچانا، کو کے پاس بھیجنا، ارسال کرنا، منتقل کرنا، کو کی اطلاع دینا، خبر دینا۔ کو کے علم میں لانا، کو سے مطلع کرنا، آگاہ کرنا۔ ـــ ہ: کو ختم کرنا، مکمل کرنا، کو طے کرنا، کا فیصلہ کرنا۔ تَـنَاهَی: ختم ہو جانا (امتداد وقت کا) ایک بلند درجہ حاصل کرنا۔ ـــ الی: کے پاس آنا، کے پاس جانا، تک پہنچنا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، کو کرنے سے رک جانا۔ تَـنَاهـی الـ[illegible] کے سننے میں آنا، کے علم میں آنا

إِنْتَهَـــی: ختم ہونا، طے ہو جانا، فیصلہ ہو جانا، (مقررہ وقت کا) ختم ہو جانا۔ إِنْتَهَـــی بـ: کے ذریعے، میں یا کے ساتھ ختم ہونا۔ ـــ عن: کو ختم کرنا۔ ـــ من: کے ساتھ ختم ہونا، مکمل ہونا۔ ـــ اِلی: انجام کار، آخر کار (ساحل) پر پہنچنا، آخر الامر تک پہنچنا۔ ـــ اِلی ان: ایک ایسے مقام تک آنا جہاں، ایسی جگہ ختم ہونا جہاں، کا انجام ہونا کا نتیجہ ہونا۔ ـ اِلی: کے علم میں آنا۔ ـ بـ اِلی: کو تک لیجانا۔ ـ عن: سے باز رہنا، رکنا، کو ترک کر دینا، کو کرنے سے رک جانا۔ انتهـــی الامـر اِلی ان: کا نتیجہ یہ تھا کہ، کا مطلب یا مدعا یہ تھا کہ، قصہ مختصر یہ کہ، الحاصل ـــ انتهـی بـه الامر إلی أن: وہ اس مقام تک پہنچا جہاں ـــ نَهْــی: روک دینا، امتناع، ممانعت، بندش، بندی، قدغن، پابندی، ممنوع قرار دینا، حرام ٹھہرانا۔ الـنَهْی والامر: غیر محدود اور مطلق اختیار، استبدادی، حاکمانہ یا آمرانہ طاقت، حکومت یا اختیار۔ قیادت، اقتدار۔ نَهْـــیِ: امتناعی، مزاحمتی، مانع، نُهًـــی: ذہانت، سمجھ، عقل، فہم، فراست، معقول بات، نفس، شعور، ذہن، دماغ، نُهْیَة: ذہن۔ نفس۔ شعور، ذہانت، سمجھ، عقل، فہم فراست، دماغ، نِهـــاء: حد، انتہائی درجہ، نِهایة جمع نِهـایات: خاتمہ، اختتام، آخری حصہ، آخر، اخیر، انجام، نتیجہ، جتنا زیادہ ہو سکے، انتہاء، غایت، نہایت۔ نِهـــایَةً: آخر میں، آخرکار، انجام کار، بالآخر، فـی الـنهـایة: آخر میں، آخرکار، انجام کار، بالآخر۔ اِلی النهایة: آخر تک۔ بلانِهایةٍ: جاری رہنے والا، غیر مختتم، غیر مختتم طور پر۔ إلـی غیـرِ نِهـایةٍ یـا اِلـی مـالا نِهایةَ لـه: غیر مختتم طور پر، ازل تک، لامتناعی طور پر، ہمیشہ کیلئے، دوامی، غیر مختتم طور پر۔ للنهایة: انتہائی حد تک، ازل تک، ابد تک نِهایةُ الاَرَب: آخری یا بنیادی منزل مقصود۔ الـــنهـــایة الـصُـغـرَی: کم سے کم۔ الـنهـــایةُ الکُـبـرَی (الـعُـظْمَی): زیادہ سے زیادہ۔ النهـایةُ الـعُلْیا: بہترین درجہ، سب سے زیادہ مارک (سکول میں) اعـلـی دَرَجَةً فی النِهایةِ الکبْرَی: (درجہ حرارت میں) زیادہ سے زیادہ حتمی درجہ۔ اقـــلُّ درجةٍ فــی النهایةِ الصُغرَی: حتمی کم سے کم درجہ، کانَ نهایةً فی الحِذْقِ: انتہائی ماہر ہونا۔ نِهائی: انتہائی، زیادہ سے زیادہ، آخری، فیصلہ کن، بنیادی، قطعی، حتمی۔ نِهـائِیًا: آخرکار، انجام کار، بالآخر۔ انـذار نهـائی یا بـلاغ نِهـائی: الٹی میٹم (Ultimatum) حـکـم نِهائی: آخری فیصلہ۔ عِلاجٌ نِهائیٌ: انتہائی علاج، آخری تدبیر۔ آخری بچنے کا طریقہ۔ فــوزٌ نِهـائـی:

maffat.com
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

آخری فتح، آخری (شاندار) کامیابی۔ مُبَارَاۃ نِھَائِی: فائنل میچ، آخری مقابلے (کھیلوں میں) Final۔ لانِھَائِی: لامتناہی۔ لانِھَائِیۃ: ازل۔ابد، بے حد، بے پایاں۔ اِنْھاء: ختم کرنا، مکمل کرنا، اختتام، تکمیل، تصفیہ۔ فیصلہ، نتیجہ، خاتمہ، توقف، وقفہ، ٹھہراؤ، معطلی، معلق ہونا۔ تَنَاہٍ: محدودیت (وقت کے امتداء کا) اختتام۔ اِنْتِھاءُ الاجل: زندگی کا خاتمہ، موت۔ ناہٍ: امتناعی، مانع۔ ھذا رجلٌ ناھِیکَ من رجلٍ: یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو کسی بھی آدمی کی جگہ لے سکتا ہے۔ ناھِیکَ مِن (نیز عن یاب) ـــ: کتنا معقول، خوب، اچھا، عمدہ ہے۔ ـ: کتنا ممتاز، نمایاں، غیر معمولی ہے۔ یا ـ: کے لئے کافی ہے، اس کا تو ذکر ہی کیا، اسے تو رہنے دو، سب سے بڑھ کر یہ کہ ـ: اولاً، مقدم، سب سے پہلے، ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر، مثال کے طور پر، لیجئے۔ ناھِیکَ ب: یہ کہنا کافی ہے کہ ـ ناھِیکَ بان: اتنا کافی ہے کہ ...... یہ جاننا کافی ہے کہ ...... یہ حقیقت تو رہنے دو کہ ......، اس حقیقت کا تو ذکر ہی کیا کہ ...... اس حقیقت کا تو ذکر ہی کیا کہ ...... اس حقیقت سے قطع نظر کہ ـــــ نَاھِیَۃ: پابندی، ممانعت۔ مَنْھِی: روکا ہوا منع کیا ہوا، ممنوع، ناجائز، محروم کیا ہوا، خلاف قانون، غیر قانونی۔ مُتَنَاہٍ: ختم کیا ہوا، ختم شدہ، محدود، منتہی، انتہائی، حد سے زیادہ فزوں، از حد، بہت زیادہ، مبالغہ آمیز، مبالغہ آمیزانہ۔ غیر متناہٍ: غیر محدود، بے حد، بے کنارا، بے انتہا بڑا، لامحدود، لامتناہی، مُتَنَاہٍ فی الدقۃ: انتہائی یا بے حد پتلا یا باریک۔ ـ: بے انتہا خوبی یا عمدگی والا۔ مُتَناہٍ فی الصغر: بے حد چھوٹا، بہت ہی رقیق یا باریک۔ مُنْتَہٍ: ختم ہونے والا، کم ہونے والا، ختم کیا ہوا، جس کی (قانونی طور پر) مدت گزر چکی ہو۔ مُنْتَھیً: ختم کیا ہوا، انتہا، خاتمہ، انتہائی، اعلیٰ درجہ، انتہائی حد۔ بِمُنْتَھَی الشدۃ: انتہائی زور یا طاقت سے۔ فی مُنْتَھَی الدِقّۃ: انتہائی باریک۔ بلغ مُنْتَھاہ: اپنے بلند ترین درجہ پر پہنچنا۔

نوا: ۱۔ نَاءَ یَنُوءُ نَوْءًا و تَنْواءً: مشقت و تکلیف سے اٹھنا۔گرنا۔ ـ بالحمل: بوجھ کو مشکل سے اٹھانا۔ ـ بہ الحملُ: کو بوجھل کرنا، کو بوجھ کا جھکانا۔ ـــ النجمُ: مغرب میں فجر کے وقت ایک ستارہ کا غروب ہونا اور اسی وقت دوسرے ستارہ کا مشرق میں طلوع ہونا۔ ناوأ مُناوأۃً ونِواءً ہُ: پر فخر کرنا، کا مقابلہ کرنا۔ سے دشمنی کرنا۔ أناءَ إناءۃً ہُ الحملُ: کو بوجھل کرنا، کو بوجھ کا جھکانا۔ اِسْتَناءَ اِسْتِناءۃً النجمَ: بمعنی ناءَ النجمُ ـــ فلانًا: کسی سے عطیہ مانگنا۔ النَوء (مص): نباتات، سبزی۔ ـــ جمع أنواء و نُوءَان و أنْوُء: عطیہ، بخشش، غروب کے لئے جھکنے والا ستارہ۔ بارش۔ کہتے ہیں: صدقَ النوءُ: مائل بغروب ستارہ سچا ثابت ہوا، یہ اس وقت کہتے ہیں جب بارش ہو کہا جاتا ہے کہ النَوْء کا معنی مغرب میں منزل سے ایک ستارہ کا غروب ہونا اور اس کے رقیب ستار کا اسی وقت مشرق میں ہر وقت تیرہ دن تک طلوع ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں ۲۸ ستارے تھے جو سال بھر میں نکلا کرتے تھے۔ ان میں فجر کے وقت تیرہ راتوں تک ایک ستارہ مغرب میں غروب ہو جاتا تھا اور اسی وقت مشرق میں دوسرا ستارہ طلوع ہوتا تھا۔ جاہلیت میں عرب کہتے تھے کہ جب ایک ستارہ غروب ہو اور دوسرا طلوع ہو تو لازمی طور پر اس وقت بارش ہوگی یا ہوائیں چلیں گی اور یوں وہ اس وقت ہر بارش کو اس ستارہ سے منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے: مطرنا بنوء الثریاء او بنوء الدبران: ہم پر ثریا یا دبران کے ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی۔ کہا جاتا ہے: ما بالبادیۃ انواءُ من فلان: ریگستان میں فلاں شخص سے ان ستاروں سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ النوء (عند الملاحین): ہوا کا تیز چلنا اور سمندر کی لہروں کا ساحل سے ٹکرانا۔ المُستناء: عطیہ مانگا ہوا۔

۲۔ نَاءَ یَنُوءُ نَوْئًا و تَنْواءً: دور ہونا۔

ⓒ نَاءَ ـ نوءاً ب: (بوجھ کے نیچے) گر جانا، دب جانا، ناکارہ ہونا، ٹوٹ جانا، دھرام سے گر جانا، شکار ہو جانا، پر بہت بوجھ ہونا۔ نَاءَ بالحمل: مشکل سے بوجھ برداشت کرنا، بوجھ سے گر پڑنا، بوجھ تلے پس جانا۔ نَاءَ بکَلْکَلِہِ: کو المناک طور پر کچل ڈالنا۔ پر بہت بوجھ ڈالنا۔ نَاءَہُ: کی مزاحمت کرنا، کا مقابلہ کرنا، مخالفت کرنا، کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جم جانا، کو خاطر میں نہ لانا، کی اطاعت نہ کرنا، کے ساتھ مقابلہ میں حصہ لینا، سے لڑنا، کشمکش کرنا، سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، سے مسابقت کی سعی کرنا۔ نَاوَأَہُ العَداء: کے خلاف ہونا، کا مخالف ہونا، کا دشمن ہونا، سے عداوت اور دشمنی کا سلوک کرنا۔ أنْوَأہ: کو کچلنا۔ نَوْءٌ جمع أنْواء و نُوان: آندھی جھکڑ، طوفانی ہوا، طوفان، تیز ہوا، طوفان باد و باران، تند ہوا کا جھونکا، طوفانی آندھی، مُناوَأۃ: مقابلہ، تعرض، مزاحمت، مخالفت، سرتابی، ضد، ہٹ، حکم عدولی، سرکشی، نافرمانی، جدوجہد، لڑائی، دنگا، جھگڑا، تنازعہ، مناقشہ، تکرار، نزاع، بیر، اختلاف، جدل و جدال۔

نوب: ۱۔ نَابَ یَنُوبُ نَوْبًا و مَنَابًا و نِیابًا فی الامر عن زید: کا کسی معاملہ میں قائم مقام ہونا۔ نائب ہونا۔ صفت: نائب: معاملہ۔ مَنُوبٌ فیہ اور زید منوب عنہ، ـ الیہ: کے پاس بار بار واپس آنا۔ کہا جاتا ہے۔ النحلُ تنوب الی الخلایا: شہد کی مکھی اپنے چھتے میں بار بار واپس آتی ہے۔ ـ الی اللّٰہ: اللہ کی طرف لوٹنا، توبہ کرنا۔ ـ فلانٌ: اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہنا۔ ـــ نَوْبًا و نَوْبَۃً فلانًا امرٌ: کو کوئی امر پیش آنا۔ نُوِّبَ فلانٌ: کی باری مقرر کیا جانا۔ نَاوَبَ مُنَاوَبَۃً ہُ: کو سزا دینا، کے ساتھ باری لینا، کے بعد آنا، سے ردل بدل کرنا۔ أنَابَ زیدٌ عنہ وکیلاً فی کذا: کو کسی معاملہ میں اپنا قائم مقام بنانا، وکیل بنانا۔ زید: مُنِیب: وکیل۔ مُنَاب: معاملہ: مُنَاب فیہ: یعنی زید قائم مقام یا وکیل مقرر کرنے والا، وکیل جسے قائم مقام بنایا گیا، معاملہ جس میں کسی کو قائم مقام یا وکیل بنایا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے۔ انَبْتُہُ مَنَابِی: میں نے اسے اپنا قائم مقام بنایا۔ ـ الیہ: کی طرف بار بار لوٹنا۔ ـ الی اللّٰہ: اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، تائب ہونا۔ کہا جاتا ہے: أتَانِی فلانٌ فما أنَبْتُ لَہُ او الیہ: فلاں شخص میرے پاس آیا تو میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تَنَاوَبَ تَنَاوُبًا القومُ علی الماء: لوگوں نے پانی کو کنکریوں سے آپس میں تقسیم کیا۔ ـ القومُ الامرَ: کام کو باری باری کرنا۔ ـ بَنَہُ الخطُوبُ: کو مصائب زمانہ کا پیش آنا، کہا جاتا ہے: المنایا تتناوبنا: ہم میں سے ہر ایک کو موت اس کی باری پر آتی ہے۔ تَنَاوَبُوا الخطبَ او الامرَ: کام یا معاملہ کو باری باری کرنا۔ اِنْتَابَھُمْ اِنْتِیَابًا: کے پاس بار بار آنا، پے در پے آنا۔ فلانًا امرٌ: کو معاملہ پیش آنا۔ ـــ زیدٌ عمرًا: زید کا عمر کا قصد کرنا، یعنی عمر کے پاس جانا۔ اِسْتَنَابَ اِسْتِنَابَۃً ہُ: کو اپنی نیابت (نائب ہونے) کے لئے کہنا۔ النائِب (فا) جمع نُوّب و نُوّاب: قائم مقام۔ کہا جاتا ہے: خیرٌ نائبٌ: خیر کثیر۔ ـــ: جمع نُوّاب: قانون ساز اسمبلی کا منتخب رکن۔ رکن پارلیمنٹ (اع): لیفٹیننٹ۔ ایجوٹینٹ (Adjutant) النائِبَۃ جمع نَائِبات و نوائِب: نائب کا مونث، مصیبت، آفت۔ النوائِب: حوادث (اچھے یا برے) نوائِبُ الرعیّۃ: پلوں اور سڑکوں کی درستی کے لئے شاہی ٹیکس۔ الحُمَّی النائبۃ: روز آنے والا بخار۔ النُوب واحد نائِب: شہد کی مکھیاں النُوب (مص: نائب کی جمع۔ ایک دن رات کی منزل، نزدیکی، قوت۔ النَوْبَۃ (مص) جمع نُوَب: فرصت، موقعہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

باری۔(کہاجاتا ہے: جاءت نوبتُك:تمہاری باری آگئی) بخار آنے کاوقت(طب) سولت(جیسے دولت پاکستان) النَّوبَۃجمع نُوَب:آفت،مصیبت، حادثہ۔ النیابۃ(مص):نیابت،باری،کہاجاتا ہے: جاءَت نِیابَتُك: تمہاری باری آگئی۔ المجلس النیابی:پارلیمنٹ(Parliament) المَنَاب (مص):نائب کی طرف جانے والاراستہ۔کہاجاتا ہے: نَابَ مَنابَ القاضی:اس نے قاضی کی جگہ لی۔وہ قاضی کا قائم مقام ہوا۔ المُنِیب(فا):بہت بارش، عمدہ بہار۔

۲۔ النُّوبُ واحد نوبی نوبہ(سوڈان) کی قوم۔ النُّوبَۃ: سوڈان کی قوم۔صعید(بالائی مصر) کے جنوب میں اس قوم کا ملک۔

○ نَابَ ـُ نَوبًا و مَنَابًا و نِیابَۃً عن: کی نمائندگی کرنا،کی قائم مقامی کرنا۔کی وکالت کرنا۔کا قائم مقام ہونا،کا بدل ہونا،کے نائب،بدل یاوکیل کے طور پر کام کرنا، کی جگہ لینا،کا جانشین ہونا،کے عہدہ پر کام کرنا،کی طرف سے کام کرنا۔ — الی:کے پاس وقتًافوقتًالوٹنا، سے وقتًافوقتًاملنا،کے مکان پر بہت دفعہ،بار بار یا اکثر جانا۔ —— نَوبًا و نَوبَۃً ہُ:لگنا،آپڑنا،پرحملہ کرنا (مصیبت وغیرہ کا)،کوپیش آنا،کے حصہ میں آنا،پر نازل ہونا۔ نوّبَ ہُ عن:کو کا نائب یا کارندہ،مقرر کرنا،کا نمائندہ،ایلچی یا سفیر بنا کر بھیجنا کو کا نائب، نمائندہ یا وکیل بنانا،کو کا اختیار دینا۔ نَاوَبَ ہُ:کے ساتھ باری لینا،کے ساتھ باری باری آنا۔ أَنَابَ ہ عن:کو کا نائب بنانا،کا وکیل بنانا،کو کا قائم مقام بنانا،یا وکیل بنانا،کو کا نمائندہ بنانا،کو کی طرف سے اختیارات دینا۔ — الی وقتًافوقتًا کے پاس آنا،سے اکثر،بار بار یا کئی بار ملنا،کے پاس بار بار یا اکثر جانا۔ اناب الی اللّٰہ:پشیمان یا نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ تَنَاوَبُ فی/ علی/ ہ:کسی کام میں باری لینا،کو باری کرنا،کو پے درپے یا ایک ایک کر کے ملنا۔پر پے در پے یا ایک ایک کر کے آپڑنا۔پر پے درپے یا ایک ایک کر کے مصیبت ڈالنا۔ تناوبَتْہُ الخطوبُ اس نے ایک کے بعد دوسری مصیبت اٹھائی،جھیلی،برداشت کی،سہی۔ اِنْتَابَ ہ پرآپڑنا،ٹوٹ پڑنا،کو گھیر لینا،کو تکلیف میں ڈالنا،ایذا پہنچانا،کو پیش آنا۔ نَوبۃ جمع نُوَب تبدیلی،ادل بدل،تبادل،باری،بدل باری، دور،گردش،چکر(کی) باری،وقت،بار(جیسے ایک بار،دو بار) موقع،حالت۔ — جمع نوبات دورہ(جیسے غشی کا دورہ) حملہ(جیسے بخار کا حملہ) غلبہ(جذمات کا)،بحران(پہرے دار وغیرہ کی) تبدیلی،پہرے دار کا فرض،پہریدار،بگل،سیٹی،موسیقاروں کا طائفہ،ملکی سازندوں کا چھوٹا طائفہ۔ بالنوبۃ اپنی باری سے، باری باری سے،بار باری،پے در پے،ایک ایک کر کے،یکے بعد دیگرے۔ نوبۃ عصبیۃ اعصابی حالت کا نازک وقت نوبات المطر بارش کے وقفے،بارش کے اوقات یا عرصے، جاءت نوبتہ: اس کی باری آئی۔ نَوبَتْجِی ڈیوٹی پر،محافظوں کا کمانڈر۔ڈیوٹی پر موجود افسر۔ نُوَبجمع نُوَب آفت، مصیبت،حادثہ،بھاری ضرب، نِیابۃ نمائندگی،بدل، قائم مقامی،جانشینی،تبادلہ،مختار کا ذریعہ،برانچ،برانچ آفس، ایجنسی، تفویض، سپردگی (اختیارات)، نمائندگان،استغاثہ،ضلعی اٹارنی جنرل(وکیل اعظم) کا دفتر۔ نِیابۃً عن:کی جگہ،کے بجائے،کی بجائے۔ بالنیابۃ:قائم مقام،منصرم،نائب،مختار کے ذریعے۔ مدیر المصلحۃ بالنیابۃ:محکمہ کا ڈپٹی ڈائریکٹر۔ بالنیابۃ عن:کے نام پر،کی طرف سے۔ نیابۃ عمومیۃ:استغاثہ،ضلعی اٹارنی کا دفتر، رئیس النیابۃ میرمستغیث(Chief prosecuter) وکیل النیابۃ استغاثہ کا نمائندہ،استغاثہ کا وکیل۔ النیابات المالیۃ:مالی یا مالیاتی تفویضات۔ نِیابی: نیابتی،کام یا اختیار تفویض کیا ہوا۔فرائض یا حقوق سونپا ہوا۔نمائندہ،پارلیمنٹری۔ حکومۃ نیابیۃ نمائندہ (پارلیمنٹری) حکومت۔ مجلس نیابی:پارلیمنٹ۔ مَنَاب:جانشینی،قائم مقامی،بدل،قائم مقام،مختار کے ذریعہ انجام دیا جانے والا منصب۔بطور نائب لی ہوئی جگہ حصہ۔ نَابَ مَنَابَہُ:کی نمائندگی کرنا،کی جگہ لینا،کی طرف سے کام کرنا۔ مُنَاوَبۃ گردش،ادل بدل۔ مُناوبۃً اپنی باری سے،باری باری سے،ایک ایک کر کے گردش میں،باری پر،پے درپے،یکے بعد دیگرے، ایک ایک کر کے بالمُناوبۃ بمعنی مُناوبۃً۔ مُناوبۃ الری:باری باری پانی دینا یا لینا۔ اِنَابۃ جواز،حکم، اجازت وکالت،قائم مقامی،اختیارات کی سپردگی، بطور نائب یا کارکن تقرری۔ انابات قضائیۃ: (عدالت سے عدالت کو) قانونی امداد کی درخواستیں۔ تَنَاوُب:ادل بدل،گردش،فصلی،دوری یا معیادی تبدیلی،تبادل(برقیات) بالتناوب: پے درپے، ایک بعد دوسرا،ایک ایک کر کے،باری باری، نائب جمع نُوّاب نمائندہ،کارندہ،مختار،قائم مقام،یکے بعد دیگرے،مندوب،نائب۔مجاز کارندہ، سارجنٹ (Sergeant) قاضی کا نمائندہ۔ نائبٌ شرعی:قاضی مجاز کا نمائندہ۔ نائب الرئیس:نائب صدر،وائس چیئرمین،نائب(عام یا نائب) عمومی: سرکاری وکیل Public prosecutor۔ نائب العریف ذفعدار۔ نائبُ القنصل نائب قونصل۔ نائب المَلِك نواب رائے۔ نائبٌ مالی مالیتی مندوب۔ مجلس النوّاب: ایوان نمائندگان،پارلیمنٹ، نائب حصہ،کوٹہ،جائیداد کا تقسیم والاحصہ،قانونی حصہ۔ نائبۃ جمع نائبات و نَوائب تغیرات،ونشیب فراز(قسمت،جنگ وغیرہ کے) بھاری ضرب،مصیبت،آفت،حادثہ بدبختی، مُنَوِّب اختیارات تفویض کرنے والا۔آئین ساز۔ دستورساز،ووٹر(Voter) ضابط مُنَوِّب:ڈیوٹی پر موجود آفسر،گارڈ کا کمانڈر۔ مُناوِب ڈیوٹی پر(خصوصاً آفیسر) مُنیب:تائب،نادم،پشیمان۔ تیار مُتَناوِبٌ الٹی رو Alternating current

نوت ا۔ نَاتَ یَنُوتُ نوتًا کمزوری سے جھکنا۔ النُّوتیّ جمع نَواتی ملاح،جہازران۔

۲۔ النُّوتُرُون (ف) برقیہ (Neutron)

○ نَاتَ یَنُوتُ نَوتًا جھولنا،ہلنا جلنا،ڈگمگانا،لڑکھڑا کر چلنا،کے پاؤں لڑکھڑانا،گرنے کو ہونا۔ نَوت ونُوتَۃ ونوتُ الموسیقی سُر،سُر کی علامت،سُر کا نشان۔ نَوتَۃ:نوٹ،ریمارک، نوتی جمع نواتی ونوتیۃ ملاح،جہازران،جہاز کا کپتان۔ نوتی اوّل بکار آموز ملاح،نوآموز ملاح، نوتی مُمتاز: ملاح،جہازران۔ نواتیُ السفینۃ بحری جہاز کا عملہ۔

نوج: نَاجَ یَنُوجُ نَوجًا منافقت کرنا،فریب دینا۔

نوح ا۔ نَاحَ یَنُوحُ نَوحًا ونُواحًا ونِیاحًا ونیاحۃً و مَنَاحًا ت المرأۃ المیتَ و علی المیت:عورت کا میت پر نوحہ کرنا،بین کرنا،واویلا کرنا،اسم النیاحۃ نوحہ،بین،واویلا۔ — ت الحمامۃ فاختہ کا کوکو کرنا۔صفت نائِحۃ ونَوَّاحۃ۔ نَاوَحَ مُناوحۃً ہُ:کا سامنا کرنا،کے سامنے کھڑا ہونا،کے روبرو ہونا،کی مخالفت کرنا،کو منہ توڑ جواب دینا،سے ملنا،سے ملاقات کرنا۔ تَنَاوَحَ تَنَاوُحًا الجبلان دو پہاڑوں کا آمنے سامنے واقع ہونا۔ — ت الریاحُ: ہواؤں کا شدت اور تندی سے چلنا،ہوا کا کبھی پروائی کبھی شمالی اور کبھی جنوبی چلنا۔ اِستَناحَ اِستناحۃ الذئبُ بھیڑیے کا بھونکنا۔ —— الرجلُ زورکر دوسروں کو رلا دینا۔ — فلانًا کو رلانا۔ — تِ المرأۃ: عورت کا نوحہ کرنا۔رونا۔ النائِحجمع نوح و

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

أَنْوَاح ونُوَّح ونَوَائِح ونائِحات: نوحہ کرنے والی۔ النَّوْح (مص) جمع ہوکر رونے والی عورتیں۔ النَّوحَة: اسم مرہ، میت پر بین۔ نِساءٌ نُوَّحٌ: جمع ہوکر رونے والی عورتیں۔ النُّوحَة: اسم مرہ۔ میت پر بین۔ النَّوَّاح م نَوَّاحَة: اسم مبالغہ۔ (ح) قمری کی طرح کا ایک پرندہ۔ النَّيِّحَة: بکری یا اونٹنی جس کا نیم کٹا کان لٹکتا چھوڑ دیا گیا ہو۔ المَنَاحَة ج مَنَاحات ومَنَاوِح: رونے، بین کرنے کی جگہ، بین۔ نوحة۔ كنا في مناحة فلان: ہم وہاں تھے جہاں بین ہورہا تھا۔ المَنَاحَة: عورتیں جو مصیبت پر رونے کیلئے جمع ہوں۔

۲۔ تَنَوَّحَ تَنَوُّحًا الشيءُ: جھولنا۔ تَنَاوَحَ تَنَاوُحًا تِ الرياحُ: ہوا کا تند چلنا۔ النَّوحة: قوت۔

☆ تَنَاوَحَ: ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ نَوَّاح: نوحہ کرنے والا، بین کرنے والا۔ نَوَّاحَة: کرایہ پر رونے والی نائحة: جمع نَوَائِح ونائحات: کرایہ پر رونے والی۔ مَنَاحَة: رونا، بین کرنا، نوحہ کرنا۔ نُوح: حضرت نوح علیہ السلام

نوخ: ۱۔ نَوَّخَ تَنْوِيخًا اللهُ الارضَ طروقةً للماء: اللہ تعالیٰ کا زمین کو ہموار کرنا، برداشت کرنے کی طاقت دینا۔ أَنَاخَ إناخةً الجملَ: اونٹ کو بٹھانا۔ کہا جاتا ہے: انختُ البعيرَ فبرك: میں نے اونٹ کو بٹھایا تو وہ بیٹھ گیا۔ تَنَوَّخَ واستناخَ: اونٹ کا بیٹھنا۔ — فلانٌ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ البلاءُ اوالذل بفلان: مصیبت یا ذلت کا کسی پر نازل ہونا۔ — به الحاجةُ: پر ضرورت عائد کرنا، کو ضرورت مند کرنا۔ إِسْتَنَاخَ إِسْتِنَاخَةً الجملُ: اونٹ کا بیٹھ جانا۔ النُّوخَة: اقامت۔ المُنَاخ: اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ جائے سکونت۔ کہا جاتا ہے هذا مُنَاخُ سوءٍ: یہ غیر پسندیدہ جگہ ہے۔ ج مُناخات: آب وہوا۔ رُت موسم (کہا جاتا ہے) مناخ هذا المكان طيب او خبيث: اس جگہ کی آب وہوا اچھی یا گندی ہے) جنتری، تقویم، کلنڈر، حال کے عرب، مصنفین اسے کبھی تقویم اور کبھی مطبوخ کہتے ہیں۔ شاید یہ فرانسیسی زبان کے لفظ Almanac سے ماخوذ ہے۔ المَنِيخ (فا): شیر

۲۔ النَّائِخة: دور افتادہ زمین۔

☆ نَوَّخَ: آرام کیلئے رکنا، اقامت اختیار کرنا۔ أَنَاخَ ب: کسی جگہ رکنا یا رہنا۔ أَنَاخَ عليه البؤسُ بِكَلْكَلِهِ: سخت مصیبت میں ہونا، سنگین حالت زار میں ہونا۔ إِسْتَنَاخَ: گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ مُنَاخ جمع مُنَاخات: رکنے کی جگہ، راستہ کا پڑاؤ، رہائش گاہ۔ مُناخ ومَناخ: آب وہوا۔ مُناخِي ومَناخِي: آب وہوا سے متعلق۔

نود: ۱۔ نَادَ يَنُودُ نَوْدًا و نُوَادًا و نَوَدَانًا: نیند میں جھونکے کھانا۔ تَنَوَّدَ تَنَوُّدًا الغصنُ: ٹہنی کا ہلنا،

۲۔ نَوْدَلَ نَوْدَلَةً الرجلُ: بڑھاپے سے کانپنا۔ النَّوْدَل: تھن، پستان۔ المُنَوْدِل: بڑھاپے سے کانپتا ہوا بوڑھا، کہا جاتا ہے: مشى الرجلُ مُنَوْدِلًا: آدمی لنگڑا کر چلا۔

نَادَ يَنُودُ نَوْدًا ونُوَادًا ونَوَدَانًا وتَنَوَّدَ: جھولنا، آگے پیچھے جھولنا، ڈانواں ڈول ہونا۔

نور: ۱۔ نَارَ يَنُورُ نَوْرًا ونِيارًا: روشن ہونا۔ — النارَ من بعيد: آگ کو دور سے دیکھنا۔ — البعيرَ: اونٹ کو داغنا۔ نورًا و نِوارًا و نَوَارًا ت الفتنةُ: فتنہ وفساد کا پیدا ہونا اور پھیلنا۔ صفت نَائِرَةٌ۔ نَوَّرَ تَنْوِيرًا الشيءُ: روشن ہونا۔ — المصباحَ: چراغ کو روشن کرنا۔ — الصبحُ: صبح کا روشن ہونا۔ نمودار ہونا۔ الشجرُ: درخت کا شگوفے نکالنا۔ — الزرعُ: کھیتی کا پکنا۔ — التمرُ: کھجور میں گٹھلی پیدا ہونا۔ — لفلان: کو روشنی دکھانا۔ أَنَارَ إِنَارَةً الشيءُ: چیز کا روشن ہونا، خوبصورت ہونا، ظاہر ہونا۔ البيتَ: گھر کو روشن کرنا۔ — المسألةَ: مسئلہ کی وضاحت کرنا۔ الشجرُ: درخت کا شگوفے نکالنا۔ کلیاں نکالنا۔ — اللهُ برهانَهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو دلیل سجھانا۔ أَنْوَرَ إِنْوَارًا الشيءُ: چیز کا ظاہر ہونا۔ تَنَوَّرَ تَنَوُّرًا المكانُ: جگہ کا روشن ہونا۔ — النارَ من بعيد: آگ کو دور سے دیکھنا۔ — الرجلَ: آدمی کو آگ کے پاس ایسی جگہ سے دیکھنا جہاں سے وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ إِسْتَنَارَ إِسْتِنَارَةً البيتُ: گھر روشن ہونا۔ — به: سے روشنی لینا۔ — النار: رائے، نشان، جہنم۔ ج أَنْوُر و نِيران ونِيرة: آگ مونث ہے کبھی مذکر بھی آتا ہے تصغیر نُوَيْرَه ہے۔ کہا جاتا ہے: أَوْقَدَ نارَ الحرب: اس نے لڑائی کی آگ بھڑکائی۔ لاتستضیء بنارِ فلان: فلاں سے مشورہ نہ لو۔ لاتترائى ناراهما: وہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جبلُ النار: آتش فشاں پہاڑ۔ بنو النار: تین شاعر۔ نارُ التهويل: عربوں میں یہ ایک رسم تھی کہ جب معاہدہ کرتے آگ جلا کر اس میں نمک ڈالتے نمک جب چٹختا تو اس کو اپنے معاہدہ کی مضبوطی جانتے۔ نارُ القِرى: مہمانی کی آگ، عرب رات کو کسی بلند جگہ پر آگ روشن کرتے اور مقصد یہ ہوتا کہ گزرنے والا مسافر اس کو دیکھ کر اس کا رخ کرے۔ یہ آگ جب کسی قدر بلند جگہ پر روشن کی جاتی اسی قدر قابل فخر سمجھی جاتی تھی۔ نارُ الانذار: جنگ کا اعلان کرنے یا جنگ کے لئے لوگوں کو جمع کرنے کی خاطر آگ جلاتے۔ آگ دیکھ کر سب سمٹ آتے۔ نارُ الاستكثار: زیادتی ظاہر کرنے والی آگ۔ عرب جب کسی سے لڑنے جاتے تو پڑاؤ ڈالتے تو بکثرت آگ جلاتے اور اس طرح کثرت سے جانور ذبح کرتے تاکہ ان دونوں چیزوں کی کثرت سے ان کی تعداد کی زیادتی کا اندازہ لگایا جاسکے۔ النيرانُ المُتحرِكة (اع): توپوں کی آگ یعنی دشمن کی طرف پھینکے جانے والے گولے۔ النَّارَة: (عام زبان میں) جلتی ہوئی لکڑی۔ النَّور (مص): واحد نَوْرَة ج أَنْوَار (ز): کلی۔ النُّور: داغ۔ — ج نِيَرَة: نباتات کی لسانی اور خوشنمائی، وہ جو چیزوں کو ظاہر کرے۔ — ج أنوار ونِيران: روشنی۔ سبتُ النور: عید الفصح سے قبل کا ہفتہ کا دن۔ النَّوَر والنَّوَرَة واحد نُورِيّ: ایک خانہ بدوش قوم جو ایشیاء، یورپ، افریقہ اور امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ النُّورَة: داغ۔ النَّوَّار: بہت روشن۔ نَوَّار: مئی (مہینہ کا نام) النُّوَّار واحد نُوَّارة ج نَوَاوِير: کلی۔ النَّوَّارة: ٹارچ، بیٹری۔ النَّيِّر: روشن کرنے والا۔ النَّيِّرَة: نیر کا مونث۔ عبرت ناک سزا۔ کہا جاتا ہے: بغاه اللهُ نَيِّرَةً: اللہ کی مار اس پر ایسی پڑے جو کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔ فلانٌ ذو نَيِّرَةٍ: فلاں شخص دور اندیش ہے۔ الأَنْوَر: اسم تفضیل: ظاہر، خوش نما۔ هذا أَنْوَرُ من ذاك: یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ المَنَار: روشنی کا مینار۔ منارہ، راستہ کی رہنمائی کا نشان۔ منزل راہ، دو چیزوں کے درمیان بنائی گئی حد۔ ذُو المَنَار: ابرهه تبع بن الرائش: جو پہلا شخص تھا جس نے عسکری مہموں میں راستہ میں نشان قائم کئے تا کہ واپسی میں رہنمائی ملے۔ المَنَارَة ج مَنَاوِر ومَنَائِر: لالٹین۔ لیمپ سٹینڈ، روشنی کا مینار، اذان دینے کا منارہ۔ منارةُ المراكب: بحری جہازوں کیلئے روشنی کا مینار۔ بغاه اللهُ ذاتَ مَنْوَر: اس پر اللہ کی مار ایسی پڑے جو روشن ہو اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔ المناوِرات واحد مُنَاوَرَة (اع): فوج کی مختلف قسم کے اسلحہ کے استعمال کی مشقیں۔ سیاسی ترغیبات، جوڑ توڑ، چالیں، گھاتیں وغیرہ۔ المُنِير (فا): خوش رنگ، چمکدار۔

۲۔ نَارَ يَنُورُ نَوْرًا ونِيارًا القومُ: شکست کھانا۔ — نَوْرًا ونِوارًا ونَوَارًا ت المرأةُ: عورت کا شبہ اور تہمت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سے بچنا۔ نَوَّرَ تَنوِيرًا المرأةَ: عورت کو شبہ سے
نفرت دلانا۔ نَاوَرَ مُنَاوَرَةً: ایک دوسرے کو گالی
دینا۔ تَنَوَّرَ القومُ: شکست کھانا۔ اِسْتَنَارَ اِسْتِنَارَةً
عليه: پر فتح حاصل کرنا، غالب آنا۔ المرأةَ: عورت کو
شک وشبہ سے نفرت دلانا۔ النَّائِرَة جمع نَوَائِر: اسم
فاعل مونث، دشمنی، عناد، بغض، کینہ۔ النَّوَار (مص)
جمع نُوْر: شک شبہ سے خوفزدہ عورت۔ سانڈ سے بھاگ
جانے والی گائے۔ النِّوَار: شک وشبہ وغیرہ سے دوری۔
النَّوُور و النَّؤُور جمع نُور: شک وشبہ سے خوفزدہ
عورت۔

۳۔ نَوَّرَ تَنوِيرًا علی فلان: کسی پر کوئی امر مشتبہ کرنا۔

۴۔ تَنَوَّرَ تَنَوُّرًا الرجُلُ: بال اڑانے کا پوڈر ملنا۔ اِنْتَارَ
اِنْتِيَارًا و اِنْتَوَرَ اِنْتِوَارًا: بال اڑانے کا پاؤڈر ملنا۔
النُّورَة: چونے کا پتھر۔ بال دور کرنے کا پوڈر۔

۵۔ النَّوُور والنَّؤُور جمع نُور (اصل میں نُؤُور) چربی کا
دھواں، کاجل۔ ایک کنکری جس کو پیش کر مسوڑھے پر
لگاتے ہیں۔ النُّورِي: بدمعاش۔ اچکا۔

۶۔ نَوْرَجَ نَوْرَجَةً: آنے جانے میں مختلف ہونا، چغل
خوری کرنے کیلئے آنا جانا۔ النَّوْرَج: ہل کی پھالی۔
غلہ گاہنے کا آلہ۔

۷۔ النَّوْرُوْز: فارسی سال کا پہلا دن۔ خوشی کا دن۔

۸۔ النَّوْرَس (ح): کبوتر کے برابر یا اس سے کچھ بڑا آبی
پرندہ۔ مرغابی اسے زُمَّجِ الماء بھی کہتے ہیں۔

○ نَوَّرَ: شگوفے یا پھول نکالنا یا شگوفے دار یا پھول دار
ہونا۔ — ہ / ل: کو روشن کرنا، پر روشنی ڈالنا۔ — ہ/ل: کو
روشن خیال بنانا، کے لئے مشعل راہ بننا۔ — ہ: لیمپ
جلانا، چراغ روشن کرنا۔ اَنَارَ ہ: کو روشن کرنا، (مسئلہ)
پر روشنی ڈالنا، کو واضح کرنا۔ اَنَوَرَ: روشنی میں آنا، دکھائی
دینا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، فاش ہونا، منکشف ہونا۔
تَنَوَّرَ: روشن ہونا، روشن خیال ہونا، روشن خیالی حاصل
کرنا۔ اِسْتَنَارَ: روشن خیالی کا متلاشی ہونا۔ بصیرت کا
طالب ہونا، وضاحت ڈھونڈنا، روشنی پانا، روشن ہونا،
جگمگانا، بصیرت حاصل کرنا، وضاحت حاصل کرنا،
اطلاع پانا۔ نار (مونث) جمع نِيرَان: آگ، رائفل
کا فائر، بندوق یا توپ کا فائر، آتش، آتش زدگی،
بھابڑ، جہنم۔ جبل النار: کوہ آتش فشاں۔ شريط
النار: فیوز (Fuse) فتیلہ، شتابہ۔ شيخ النار:
شیطان، ابلیس۔ اشهر من نارٍ علی عَلَم: بہت
مشہور۔ کَأنَّ علی نارٍ: بے چین ہونا۔ نيرانٌ حامية:
بندوق یا توپ کی بھاری باڑھ (heavy fire)
نَارِي: آگ کا، شعلہ سا، آتشیں، آگ بگولا، آتش
فشاں، جلتا ہوا، لال انگارا، غصے سے لال پیلا، چمکتا
ہوا۔ آلة ۔۔ ية: موٹر ہر وہ گاڑی جو موٹر سے چلتی ہو۔
دَرَّاجة نارية: موٹر سائیکل سلاح ناری: آتشین
اسلحہ۔ سَهْمٌ نَارِيٌّ: راکٹ (Rocket) طَلَق
ناری: فائر (رائفل، بندوق کا) اَلْعَابٌ نارية:
آتشبازی۔ مَقْذُوفٌ نَارِيٌّ: گولی، بم، گولی۔ نَوْر
(اسم جنس) واحد نَوْرَة) پھول، شگوفے۔ نُور جمع
اَنْوَار: روشنی، روشنی کی کرن، روشنی کی شعاع، چمک
دمک، آب وتاب، چمک تمتماہٹ، دمک، قمقمے، بلب،
چراغ، موم بتیاں، دیئے لیمپ، لالٹین۔ (موٹر وغیرہ
کی) سامنے کی بتی۔ نُورٌ بَرَّاق: جھلملاتی روشنی، شعلہ
فشاں روشنی۔ نُورٌ ثَابِتٌ: یکساں روشنی۔ نُورُ
الدلالة: رہنما روشنی۔ نُورٌ كَشَّاف يا نُور
كاشف: برقی روشنی کی تیز شعاعیں، سرچ لائٹ
Search light۔ انوارٌ خفيَّة: بالواسطہ روشنیاں
ام النور: کنواری مریم سبتُ النور: عید فصح سے
پہلے کا ہفتہ کا دن۔ عَلَيْكَ نُورٌ شاباش۔ مرحبا۔ رَأَى
النور: وجود میں آنا، دنیا میں آنا، پیدا ہونا۔ نوری:
روشنی کا، روشنی جیسا، روشن، تاباں، تابندہ، روشنی دینے
والا، چمکیلا، رخشندہ، درخشاں، تابناک، چمکدار۔
نُورَانِي: روشن، تابان، تابندہ، روشنی دینے والا،
بصیرت افروز۔ نُورَانِيَّة: تنویر، درخشانی، تابندگی،
آب وتاب، طباعی، ذہانت۔ نَوَرَ: (اسم جنس):
جپسی، خانہ بدوش، آوارہ گرد، مزدوری ڈھونڈنے
والے۔ نَوَرِي: خانہ بدوش، آوارہ گرد، مزدوری ڈھونڈنے
والا۔ نُورَة: چونا۔ بال صفا پوڈر۔ النَّيِّرَان: سورج
اور چاند۔ نُوَّار (اسم جنس واحد نُوَّارَة) جمع نَوَاوِير:
شگوفے، پھول۔ مَنُور جمع مَنَاوِر: (دیوار میں)
روشنی کا سوراخ، سقفی روشندان۔ التنوير و تنوير
العقول: روشن خیالی۔ نائرة: نفرت۔ جنگ کا شعلہ۔
مُسْتَنِير: روشن، روشن خیال تعلیم یافتہ۔ تعلیم یافتہ شخص۔
مُنَاوَرَة: فوجی چال، عسکری حرکت، شنٹنگ (کانٹا
بدلنا) داؤں، چال، سازباز۔ مُنَاوَرَات: فوجی چالیں
حرکتیں۔ مُنَاوَرَات جوية: فضائی چالیں، حرکتیں۔
مُنَاوَرَة (دبلوماسية: سفارتی چال۔ عامل المناورة: کانٹا
بدلنے والا یا کانٹے والا (Shunter) (ریلوے کی
اصطلاح) نُورَسْتَنِيَا: اعصابی کمزوری neurasthemia

نوز: نَوَّزَ تَنوِيزًا هُ: کو کم کرنا

نوس: ا۔ نَاسَ يَنُوسُ نَوْسًا الابلَ: اونٹوں کو ہانکنا۔ —
نَوْسًا و نَوَسَانًا الشيءُ: چیز کا جھولنا، کہا جاتا ہے: لہ
ضفيرتان تنوسان على عاتقيه:
اس کے کندھوں پر جھولتے رہتے ہیں۔ نَوَّسَ اِنَاسَةً
الشيءَ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ تَنَوَّسَ الغُصنُ: شاخ
کا ہوا سے ہلنا۔ نُوَاسُ العنكبوت: مکڑی کا جالا۔
نُوَاسُ الدُّخان: دھوئیں کا جالا۔ النَّوَّاس م نَوَّاسَة:
لٹکنے والا۔ النَّوْسَات: چوٹیاں، زلفیں۔ النَّوَّاسَة:
جلتی ہوئی بتی (چراغ کی) اس کو نُوَيْسَة اور طوَّافة
بھی کہتے ہیں۔ دیا۔

۲۔ نَوَّسَ تَنوِيسًا بالمكان: کسی جگہ قیام کرنا۔

۳۔ النَّاس واحد انسان تصغير نُوَيس: لوگ۔
النَّاوُوس جمع نَوَاوِيس: نصاری کا قبرستان، پتھر کا
تابوت جس میں میت رکھی جاتی ہے۔ المُنَوَّس: سیاہ
کنارے والا چھوہارہ۔

○ نَاسَ يَنُوسُ نَوسًا ونَوَسَانًا: جھومنا، جھولنا، ہلنا،
ڈولنا۔ نَوَّاس: جھولتا ہوا، پنڈولیم Pendulum۔
نَاوُوس وناء وس جمع نَوَاوِيس: پتھر کا تابوت۔
نُوسَر: ناسور بنانا۔

نوش: نَاشَ يَنُوشُ نَوْشًا الشيءَ: چیز کو پکڑنا، طلب
کرنا۔ — فلانًا: کو سر اور داڑھی سے پکڑنا۔ — زیدًا
خیرًا: زید کو بھلائی پہنچانا۔ — فلانٌ من الطعام
شيئًا: کو کھانے کی کوئی چیز ملنا۔ — الشيءُ بالشيءِ:
چیز کا چیز سے لٹکنا۔ چمٹنا۔ — البعيرُ: اونٹ کا تیزی
سے اٹھنا۔ — فلانٌ: کسی کا چلنا۔ نَاوَشَ مُنَاوَشَةً
فلانٌ الشيءَ: فلاں کا چیز کو ملانا، خلط ملط کرنا۔
نَاوَشُوهم في القتال: پر لڑائی میں حملہ کرنا۔
تَنَاوَشَ الشيءَ: چیز کو پکڑنا۔ تَنَاوَشُوا بالرماح:
نیزہ بازی کرنا۔ اِنْتَاشَ اِنْتِيَاشًا هُ: کو پکڑنا، کو نکالنا، کہا
جاتا ہے: اِنْتَاشَهُ من الهلكة: کو ہلاکت سے بچانا۔
النَّؤُوش: قوی۔ رجلٌ نَؤُوش: مضبوط آدمی۔

○ نَاوَشَ ہ: کی سے جھڑپ ہونا، کے ساتھ جھڑپ میں
مشغول ہونا۔ — ہ: سے رگڑنا، کے ارد گرد یا آس
پاس کھیلنا۔ نَوْشَة: ٹائیفائیڈ بخار۔ مُنَاوَشَة: جھڑپ،
لڑائی۔ مڈبھیڑ۔ مقابلہ مُنَاوَشَةٌ حربية: لڑائی، مسلح
تصادم جمع مُنَاوَشَات: جارحانہ کارروائی، جارحانہ
اقدامات۔ مَنَاوِيش ومناويشي: نیلگوں اودا،
ارغوانی۔ نُوشَادر: نوشادر کی گیس۔ امونیا گیس
(Ammonia)

نوص: ا۔ نَاصَ يَنُوصُ نَوْصًا ومَنَاصًا ومَنِيصًا عن
قِرنِهِ: اپنے مدمقابل سے بھاگ جانا، بچنا، جدا ہونا۔
— فلانًا: کے ہاتھ سے نکل جانا، سے سبقت لیجانا۔ —
الشيءَ: کو کھینچنا۔ — اليه: کی طرف اٹھنا۔ —
للحركة: حرکت کے لئے تیار ہونا۔ —

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پیچھے ہٹنا۔ مَنَاصًا ونَوِيصًا ونِيَاصًا ونِيَاصَةً ونَوْصًا و نَوَصَانًا الرجُلُ: ہلنا، حرکت کرنا، کہا جاتا ہے: مايقدر على أن يَنُوص: وہ چیز کیلئے حرکت کرنے پر قادر نہیں۔ نَوَّصَ القنديلُ: قندیل کی روشنی کمزور ہونا۔ مدہم ہونا۔ ـــ القنديلَ: قندیل کی روشنی مدہم کرنا۔ (عام سریانی زبان میں) نَاوَصَ مُنَاوَصَةً ہٗ: کسی سے جھڑپ ہونا۔ إنْتَاصَ إنْتِيَاصًا الشمسُ: سورج کا غائب ہوجانا۔ إسْتَنَاصَ إسْتِنَاصَةً الرجُلُ: پیچھے رہ جانا، تاخیر کرنا، سربلند کرنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا چلنے کے لئے حرکت کرنا۔ ـــ ہٗ: کو حرکت دینا، ہلکا سمجھنا اور اپنی ضرورت کے لئے لیجانا۔ النَوْص (ح): گورخر۔ ـ والنُوص: فرار۔ بھاگ جانا۔ النَوْصَة: ناص کا اسم مرہ۔ پانی وغیرہ سے غسل، کہا جاتا ہے: مابه نَوِيصٌ: اس میں کوئی طاقت وحرکت نہیں۔ المنَاص (مص): جائے پناہ۔ بھاگنے کی جگہ، کہا جاتا ہے: مالك من مناص: تمہارے لئے کوئی جائے فرار نہیں۔

۲۔ أنَاصَ إناصَةً ہٗ: کا ارادہ کرنا کہا جاتا ہے۔ أنَصْتُ أن آخذا منه شيئا: میں نے اس سے کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا۔

۳۔ النَوْصُ والمَنَاص: سخاوت۔

○ نَاصَ ـُ نَوْصًا ومنَاصًا ومَنِيصًا عن: سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا، گریز کرنا، بچ نکلنا، کو ٹال جانا، پی جانا، سے ادھر ادھر ہٹنا، سے فرار ہونا، پیچھے ہٹنا، إنْتَاصَ: مدھم ہونا، ختم ہوجانا (روشنی، لیمپ وغیرہ کا)۔ نَوْص: جنگلی گدھا، گورخر۔ مَنَاص ومَنِيص: پہلو تہی، بچنا، گریز، بچ نکلنا، فرار، جائے فرار، لامَنَاص منه: اٹل، ناگزیر، ہو کر رہنے والا، مجبوری کی بات۔

نوض: ۱۔ نَاضَ يَنُوضُ نَوْضًا: شہروں میں جانا۔ ـــ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ ـــ الشيءُ: چیز کا حرکت کرنا۔ ـــ الرجُلُ: بھاگ کر نجات پانا، جان بچانا۔ المَنَاض: جائے پناہ۔ پناہ گاہ۔

۲۔ نَاضَ يَنُوضُ نَوضًا الشيءَ: کو اکھاڑنے کی کوشش کرنا۔ ـــ الماءَ: پانی نکالنا۔ أنَاضَ إناضَةً: مشقت کے آثار کسی کی آنکھوں سے نمایاں ہونا۔ ـــ النخلُ: درخت خرما کا پکی کھجوروں والا ہونا۔ النَوْضُ (مص) جمع أنْوَاض وأنَاوِيض: پانی نکلنے کی جگہ، وادی۔ ـــ من البعير: دونوں سرین کے درمیان کی ہڈی۔ الأنْوَاض والأنَاوِيض: بلند جگہیں۔

۳۔ ـــ يَنُوضُ نَوْضًا: تاخیر کرنا، پیچھے ہٹنا۔

۴۔ نَوَّضَ تَنْوِيضًا الثوبَ بالصبغ: کپڑا رنگنا۔

۵۔ النَوْض جمع أنْوَاض وأنَاوِيض: دم کی ہڈی۔

نوط: نَاطَ يَنُوطُ نَوْطًا ونِيَاطًا ہٗ: کو لٹکانا۔ (کہا جاتا ہے: نِيطَ عليه الشيءُ: اس پر چیز لٹکائی گئی) ـــ ت الدارُ: گھر کا دور ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو بغیر مشورہ کے اپنی رائے سے کاٹنا۔ نِيطَ به الشيءُ: سے ملایا جانا۔ نَوَّطَ ہٗ: کو لٹکانا۔ ـــ القربةَ: مشک کو تیل ملنے کے لئے پانی سے بھرنا، کہا جاتا ہے۔ أبطأ حتى نَوَّطَ الروحَ: اس نے دیر کر کے دل تنگ کر دیا۔ اور ملول کر دیا۔ أنَاطَ إنَاطَةً ہٗ بكذا: کو سے باندھنا۔ ـــ البعيرُ: اونٹ کو سینہ اور ران کی جڑ میں ورم ہونا۔ إنْتَاطَ إنْتِيَاطًا به: کے ساتھ لٹکنا۔ ـــ الشيءُ: دور ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو بغیر مشورہ کے اپنی رائے سے کاٹنا۔ إسْتَنَاطَ إسْتِنَاطَةً فلانًا بعيرَہٗ فانتاط هُوَلَهٗ: کو اونٹ زادِ راہ اٹھانے کے لئے دینا اور اس کا اونٹ کو لے لینا۔

النَائِط (فا): پیٹھ کی اندرونی رگ۔ ـــ والنَائِطة: پوٹا۔ النَوْط (مص) جمع أنْوَاط ونِيَاط: لٹکی ہوئی چیز۔ جانور کے دونوں طرف کے درمیان رکھا ہوا زائد بوجھ۔ (کہا جاتا ہے: اثقل النوطُ الدابّةَ: جانور کے دونوں طرف کے درمیان رکھے ہوئے بوجھ نے جانور کو حد سے زیادہ زیر بار کر دیا) محمل سے لٹکی ہوئی کھجوروں کی خرجی۔ النَوْطَة: نَاطَ کا اسم مرہ۔ پانی سے بلند جگہ، اونٹ کے سینہ اور ران کی جڑ میں ورم، اونٹ کے پیٹ کے مہلک غدود، پوٹا، کینہ، سیلاب سے اونچی جگہ جس کے درمیان درخت ہوں اور دونوں طرف سے درختوں سے خالی ہو۔ النِيَاط (مص) جمع أنْوِطَة ونُوط: دل، ہر چیز لٹکانے کی جگہ (ع ا)، دل سے متصل ایک موٹی رگ (ع ا)، کمر کی ایک رگ۔ ـ من المفازة: بیابان کے راستہ کی دوری۔ کہا جاتا ہے: مفازةٌ بعيدة النياط: دور دور حد والا بیابان۔ قطعتُ نِيَاطَ البلَدِ: میں نے شہر کو طے کیا۔ النَيِّط: درمیان (کہا جاتا ہے: لاكثير ولا قليل ولكن نَيِّطٌ بين الامرين: نہ زیادہ نہ تھوڑا مگر زیادہ اور تھوڑے کے درمیان) کنواں جس کے کناروں سے پانی بہتا ہو۔ النَيِّطَة: اونٹ جو غلہ لانے کے لئے غلہ لانے والوں کے ہمراہ بھیجا جائے۔ الأنْوَاط: نَوْط کی جمع: لٹکائی جانے والی چیزیں، کہا جاتا ہے: عنده انواط من التمر والعنب: اس کے پاس کھجور اور انگور کی خرجیاں ہیں۔ التَنْوَاط: ہودج کی زینت کیلئے لٹکائی جانے والی چیز۔ التَنَوُّط والتُنَوِّط واحد تَنَوُّطَة وتُنَوِّطَة (ح): شاخوں سے اپنا گھونسلا لٹکانے والا پرندہ۔ بیا۔ المَنَاط: لٹکانے کی جگہ، دور، کہا جاتا ہے: هو مني مَنَاطَ الثريّا: وہ مجھ سے اتنا ہی دور ہے جتنا ثریا۔ بنو فلان مناطُ الثريّا: فلاں قبیلہ والے ثریا جتنے دور ہیں، یعنی (اپنے بلند مرتبہ اور شرف کی وجہ سے) غايةٌ مُنْتَاطَة: دور کی غایت۔ المَنُوط مفع: کہا جاتا ہے۔ هذا منوطٌ به: یہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ هو منوط بالقوم: وہ قوم میں اجنبی ہے یا لے پالک ہے۔ بعيرٌ مَنُوطٌ: سینے اور کہنیوں پر ورم والا اونٹ۔

○ نَاطَ ـُ نَوْطًا ونِيَاطًا ہ ب: کو سے یا پر لٹکانا۔ ـــ ہ ب: کو کے سپرد کرنا۔ ـ ب ہ: کے سپرد کوئی چیز کرنا، کو کوئی کام کرنا تفویض کرنا، کو کسی کام کے کرنے کا مختار بنانا، کے سپرد کوئی کام کرنا۔ ـــ ہ علی / ب: کو سے مشروط کرنا۔ نِيطَ ب: سے مشروط ہونا، سے منسلک ہونا، سے مربوط ہونا، سے متعلق ہونا، کے سپرد ہونا۔ ـــ علی: پر لٹکا ہوا ہونا۔ نَوَّطَ وأناطَ بمعنی نَاطَ۔ أنَاطَهٗ بشرطٍ: کو شرط سے وابستہ کرنا، کو مشروط بنانا، کو کا مستوجب بنانا، کو پر منحصر کرنا۔ أناطَهٗ بعهدته: کو کی ذمہ داری سونپنا، کو کا ذمہ دار بنانا۔ نَوط جمع أنْوَاط ونِيَاط: لٹکی ہوئی چیز۔ جڑی ہوئی چیز، آرائش، تمغہ، نشان اعزاز، قدر و منزلت کا تمغہ۔ نُوط الجدَارة: تمغہ استحقاق۔ نِيَط جمع نِيَاط: رگ جان، شاہ رگ، بڑی رگ جو دل سے نکلتی ہے۔ منظرٌ يشقُّ له نياطُ القلوب: دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا منظر۔ قَطعَ نياطَ القلوب: دل توڑنا۔ مَنَاط: جگہ جہاں کوئی چیز لٹکائی جاتی ہو۔ ہدف (مذاق کا) (امید کا) لنگر۔ مَنَاطُ الثُريّا يا مَنَاطُ الجوزاء: بلند ترین آسمان، اتنا اونچا یا اتنا دور جتنا اونچا یا دور سات سہیلیوں کا جھمکا (ثریا، پروین) ہے۔ تَنَوُّط: بیا۔ مَنُوطٌ ب: پر منحصر، سے وابستہ، سے مشروط، کا نگران، کے زیر نگرانی۔ مُنَاطٌ ب: کے سپرد، کا نگران، کے زیر نگرانی۔

نوع: ۱۔ نَاعَ يَنُوعُ نوعًا الغصنُ: ٹہنی کا جھکنا۔ ـــ الشيءُ: آگے پیچھے جھولنا، زیادہ وزنی ہونا، گھڑی کے لٹکن کی طرح ہلنا، ہلنا جلنا۔ ـ ت العُقابُ: عقاب کا کسی چیز پر سمٹ پڑنا۔ ـــ الرجُلُ: بھوکا ہونا، صفت نَائِع جمع نِيَاع پیاسا ہونا۔ نَوَّعَ تنويعًا ت الريحُ الشيءَ: ہوا کا کسی چیز کو ہلانا۔ ـــ زيدٌ الشيءَ: زید کا چیز کو لٹکا کر ہلتی ہوئی چھوڑنا۔ تَنَوَّعَ الشيءُ: جھولنا، تھرتھرانا۔ ـــ الغصنُ: ٹہنی کا ہلنا۔ ـــ في السير: (چلنے میں) آگے بڑھنا۔ إسْتَنَاعَ إسْتِنَاعَةً الغصنُ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ٹہنی کا ہلنا۔ — الرجلُ فی السیر آگے بڑھنا۔ — الشیئُ: جاری رہنا۔ النائِع (فا) پیاسا۔ جائع نائع: بھوک کی وجہ سے جھکا ہوا۔ قوم جیاع نیاع: بھوک کی وجہ سے جھکے ہوئے لوگ۔ النوعُ: پیاس، کہا جاتا ہے: رماهُ اللهُ بالجوع النوع اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک کی مار ماری اگر کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہتے ہیں: جوعًا نوعًا: اللہ انہیں بھوک کی مار مارے۔ النوعَة: ناع کا اسم مرۃ۔ النوعان: ٹہنیوں کا ہلنا۔

۲۔ ناع ینوعُ نوعًا فلانٌ الشیئَ: چیز کو طلب کرنا۔

۳۔ نوَّعَ تنویعًا الشیئَ: کو قسموں میں تقسیم کرنا، کی قسمیں بنانا۔ تنوَّعَ الشیئُ: قسموں میں بٹنا، قسمیں بننا۔ النوعُ جمع انواع: قسم۔ المِنوَاع: طریقہ، طرز۔

۴۔ النوعة: تر و تازہ پھل۔ مکانٌ متنوِّعٌ: دور کی جگہ۔

○ نوَّعَ: کو مختلف یا متعدد قسموں میں تقسیم کرنا۔ کو مختلف یا متنوع کرنا، بوقلموں کرنا، رنگ برنگ کرنا، مختلف رنگوں سے بوقلمون بنانا، کو انواع واقسام کرنا، کو تبدیل کرنا، کو معتدل کرنا، کی تراش خراش کرنا، کو قطع برید کرنا، کی بیرونی شکل میں تغیر کرنا، کی شکل تبدیل کرنا۔ تنوَّعَ: مختلف قسموں یا شکلوں کا ہونا، گوناں گوں، بوقلموں یا طرح طرح کا ہونا، کثیر الانواع یا متنوع ہونا، مختلف ہونا، مرکب ہونا۔ نوعٌ جمع انواع قسم، نوع، ٹائپ، بوقلمونی، انواع واقسام، مختلف چیزوں کا مجموعہ، ورائٹی (Variety) طریقہ، انداز، شکل، طبیعت، کردار، خوبی، خصوصیت، خاصیت، گریڈ، نوعًا: کسی قدر، تھوڑا سا، کسی حد تک، کسی طریقے کا، گویا، ایک طرح سے۔ نوعًا ما: کسی نہ کسی طرح، ایک طرح سے، کسی قدر۔ نوعًا و کمیّةً: ساخت اور مقدار میں، کیفیت اور مقدار میں۔ بنوعٍ خاصٍ: خاص کر، بالخصوص، خصوصاً۔ الاوّل من نوعه: اپنی قسم کا پہلا۔ ظالمون علی انواعهم: ہر قسم کے ظالم۔ نوع الانسان یا النوع الانسانی: نسلِ انسانی۔ نوعیٌّ: نوعی، طبیعت، یا ٹائپ کا، امتیازی، مخصوص، کا مخصوص، مناسب موزوں، اصلی، لازمی، ضروری، جوہری، خصوصی۔ وزن نوعی ثقل نوعی: ثقل نوعی۔ کثافت نوعی Specific gravity۔ تنویع: تبدیل، تبدیلی، ترمیم۔ تنوّع: بوقلمونی، اختلاف، کثیر تعداد، تبدیلی، تغیر، فرق، دوبارہ یا از سرِ نو ترتیب یا بندوبست، پھر سے توازن کی درستی۔ متنوّع: مختلف، متعدد، متفرق، مخلوط، کئی طرح کا، ہر رنگ کا، مختلف قسم کا، گونا گوں، طرح طرح کا، مرکب، متنوع معنی۔

منوَّع۔ منوّعات (اخبار کے ایک کالم کی سرخی): متفرقات (کا مجموعہ)۔

نوف ۱۔ ناف ینوف نوفًا الشیئُ: بلند ہونا۔ — علی الشیئ: سے زیادہ ہونا، کے اوپر ہونا، سے بڑھ جانا۔ البعیرُ: اونٹ کا لمبا اور اونچا ہونا۔ نیّف تنییفًا علی کذا: سے زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ نیّف العددُ علی ما تقول جو تم کہتے ہو تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اناف إنافةً علی الشیئ: سے زیادہ ہونا، سے لمبا ہونا۔ سے اونچا ہونا۔ (کہا جاتا ہے: اناف الجبل وأناف البناء: پہاڑ لمبا اور اونچا ہے، عمارت لمبی اور اونچی ہے) — علی کذا: سے زیادہ ہونا، کہا جاتا ہے: انافتِ الدراهمُ علی المئة: پورے سو سے زیادہ ہو گئے۔ النوف (مص) جمع انواف بلند کوہان۔ آواز۔ دامن کے نیچے کا حصہ۔ النیاف من الجمال والنوق: لمبا اور اونچا اونٹ یا اونٹنی۔ کہا جاتا ہے: جمل نیافٌ وناقة نیافٌ: لمبا اور اونچا اونٹ یا اونٹنی۔ امرأةٌ نیافٌ: دراز قد، خوبصورت عورت۔ فلاةٌ نیافٌ: لمبا چوڑا بیابان۔ النیّف: زیادتی۔ بھلائی کہا جاتا ہے: هو نیّفٌ علیه: وہ اس سے زیادہ ہے۔ — والنیِّف: زیادتی۔ کہا جاتا ہے: عشرةٌ ونیّفٌ اونیفٌ: دس اور کچھ اوپر یا دس یا دس سے زیادہ۔ نیف کا لفظ محض دہائی پر زیادتی کو ظاہر کرتا ہے۔ خمسة عشر ونیّف نہیں کہہ سکتے۔ جبل عالی المُناف: بلند پہاڑ۔ المنیف فا۔ جبل منیف: بلند پہاڑ۔ له عزٌّ منیفٌ: وہ بلند عزت والا ہے (مجازاً)۔ امرأة منیفة: دراز قد اور خوبصورت عورت۔

۲۔ ناف ینوف نوفًا الصبیُّ من الثدی: بچے کا پستان چوسنا۔

○ ناف ـُ نوفًا: بلند ہونا، بہت اونچا ہونا، سرفراز ہونا، برتر ہونا، بہترین ہونا پُرجلال ہونا۔ — عن/علی: سے زیادہ ہونا، کے اوپر ہونا، کی دسترس سے باہر ہونا۔ ما ینوف علی الخمسین: پچاس سے زیادہ۔ نیّف و أناف علی / عن بمعنی ناف عن /علی۔ ما یُنیف عن ثلاث سنوات: تین سال سے زیادہ، تین سال سے اوپر۔ نافٌ ج۱۔ نوف جمع انواف: جو تعداد، مقدار، ناپ، پیمائش درجہ وغیرہ سے زائد ہو، زیادتی۔ زائد۔ نیف: زیادتی، زائد۔ نیف و بِ نیّف: کوئی، اور کوئی، کچھ۔ نیف وعشرون: کوئی بیس ... نیافة ... شرف، فضیلت آب (لقب) منیف: بلند، لمبا، بہت اونچا، سرفراز، بہترین، پرجلال۔ ممتاز، عمدہ، اعلیٰ۔ منوفی: مصری کپاس کی ایک قسم۔ نوفمبر: نومبر (November)

نوق: ناق ینوق نوقًا: چربی کو گوشت سے جدا کرنا۔ نوّق تنویقًا الجملَ: اونٹ کو اچھی طرح سدھانا۔ — النخلَ: مادہ کھجور میں نر کھجور کے پھول ڈالنا۔ — الشیئَ: چیز کو ترتیب سے جمانا۔ آنق ایناقًا و نیقًا الشیئُ فلانًا: کوئی چیز کسی کو پسند آنا، اچھی لگنا۔ تنوّق تنوّقًا: آہستہ چلنا، ٹہلنا، پر لطف ہونا۔ تنوّق وتنیّق تنیّقًا فی ملبسه او مطعمه او اموره: پہننے کھانے پینے اور دیگر امور میں صاف ستھرا ہونا۔ إنتاق إنتیاقًا الشیئَ: کو منتخب کرنا، چننا۔ — فی ملبسه او مطعمه او اموره: لباس، کھانے اور امور میں صاف ستھرا ہونا۔ إستنوق إستنواقًا الجملُ: اونٹ کا اونٹنی کے مشابہ ہونا، اس سے ضرب المثل ہے۔ استنوق الجمل آدمی نے ایک بات کرتے کرتے اسے دوسری باتوں سے خلط ملط کر دیا۔ الناقة (فلک): اونٹنی کی طرح صف بستہ ستارے۔ ہاتھ میں نکلنے والی پھنسی۔ جمع نانق ونوق وانوق وأونق وأینق ونیاق وناقات وانواق جمع الجمع ایانق ونیاقات (ح) اونٹنی۔ الناوق جمع ناوقات: لکڑی کا پرنالہ (فارسی لفظ) النوق: تھوڑی سرخی ملی ہوئی سفیدی۔ النوقة: مہارت۔ النواق: کاموں کو ہوشیاری سے انجام دینے والا۔ النیق جمع نیاق وانیاق ونیوق: پہاڑ کی چوٹی۔ النیقة: نفاست پسندی۔ ضرب المثل خرقاء ذات نیقة: معاملات سے ناواقف مگر واقفیت کا مدعی۔ ارادہ میں نفاست پسند۔ النیّق: نازک مزاج، ضرورت سے زیادہ محتاط، نفاست پسند، نک چڑھا، بڑا بار یک بین۔ المنوّق: اچھا سدھا ہوا اونٹ۔ — من النخل: کھجور کا پھول ڈالا ہوا نر درخت خرما۔ ناقةٌ منوّقة: اونٹنی جسے چلنا سکھایا گیا ہو۔

○ تنوّق وتنیّق فی: میں نفاست پسند، بار یک بین یا ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا۔ استنوق الجمل: اس نے غلطی سے اونٹ کو اونٹنی سمجھا۔ لاناقة لی فی الامر ولاجمل: میرا اس معاملہ میں کوئی ہاتھ نہیں۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

نوک: ناک ینوک نوکًا ونواكًا ونُواكة: بے وقوف ہونا۔ انوك اِنواكًا: کو بے وقوف پانا ... ل کرنا۔ إستنوك إستنواكًا: بے وقوف ہونا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۔ فلانًا: کو بے وقوف سمجھنا، کہا جاتا ہے: ما أنْوَكَهُ: وہ کتنا بے وقوف ہے۔ الأنْوَك جمع نَوْكَى ونُوك م نَوْكَاء جمع نُوك: احمق، بے وقوف، بڑا ہی بے وقوف، عاجز وجاہل، بولنے میں عاجز۔ المُسْتَنْوِك: بیوقوف

نول: نَالَ يَنُولُ نَوَالاً ونَوْلاً فُلانًا العطية وبالعطيّة ونال له العطيّةَ وبالعطيّة: کو عطیہ دینا۔ نَالَنِي بالخير و نال له بشيئٍ: اس نے مجھ کو بھلائی یا اسے کوئی چیز پہنچائی۔ نَالَ لَهُ أن يفعلَ كذا: اس کے لئے ایسا کرنے کا وقت آگیا ـــ يَنَالُ نَيْلاً ونائلاً: فیاض ہونا۔ نَوَّلَ تَنْوِيلاً ہُ: کو بخشش دینا ـــ ہُ معروفَهُ: کو بھلائی پہنچانا ـــ عليه بشيٍ: کو کوئی چیز دینا۔ نَاوَلَ مُنَاوَلَةً ہُ الشَّيَّ: کو کوئی چیز دینا یا ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز دینا۔ انَالَ إنالَةً ہُ الشيَّ وبالشيَّ: کوئی چیز دینا۔ کہا جاتا ہے: أَنَا لَنِي بخيرٍ: اس نے مجھے بھلائی پہنچائی۔ ما أَنْوَلَهُ: اس کی بخشش اور بھلائی کتنی زیادہ ہے۔ تَنَوَّلَ الشيَّ: چیز لے لینا ـــ علينا فلانٌ الشيَّ يسير: کو تھوڑا سا دیدینا۔ تَنَاوَلَ الشيَّ: چیز لے لینا ـــ المسيحيُّ: مسیحی کا عشائے ربانی لینا ـــ من يده شيئًا: کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا۔ کہا جاتا ہے: تَنَاوَلَتْ بنا الركابُ مكانَ كذا: اونٹوں نے ہمیں فلاں جگہ پہنچادیا۔ النَّائِل (مص۔ و فاعل): عطیہ، بخشش۔ بھلائی۔ النائِلة: نائِل کا مونث۔ النَّال: عطا، رجُلٌ نالٌ: فیاض مرد یا بہت فیاض مرد۔ کہا جاتا ہے: رجُلان نالانِ ورجال أنْوَال: دو یا دو سے زیادہ سخی مرد۔ النَّوَال: عطا، حصہ، درستی، کہا جاتا ہے: نَوَالُكَ ان تفعلَ كذا: تمہیں چاہئے کہ ایسا کرو۔ النَّوْل (مص) جمع أنْوال: بہتی ندی۔ کہا جاتا ہے: نَوْلُكَ ان تفعلَ كذا: تمہارے لئے ایسا کرنا مناسب ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہئے۔ مانَوْلُكَ ان تفعلَ كذا: تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ النَّوْلَة: نال کا اسم مرہ۔ عطیہ۔ داد و دہش کہا جاتا ہے: ما أصبتُ منه نَوْلَةً: مجھے اس سے کچھ نہیں ملا یا کوئی عطا نہیں ملی۔ المناولَة عند المسيحيين: عشاء ربانی کا لینا۔

۲۔ أنالَ إنالَةً فلانٌ باللّٰه: اللہ کی قسم کھانا۔

۳۔ النَّائِلة: قریش کے ایک بت کا نام۔ النَّاوُلُون: بحری جہاز کا کرایہ۔ النَّوْل جمع أنْوَال: جلاہے کی کپڑا لپیٹنے کی لکڑی۔ یا کرگہ۔ المِنْوَل جمع مَنَاوِيل: بمعنی النَّوْل۔ المِنْوَال: جلاہا۔ ج مَنَاوِيل: جلاہے کی کپڑا لپیٹنے لکڑی یا کرگہ۔ هم عَلَى مِنْوالٍ واحدٍ: وہ سب ایک ہی قسم کے اخلاق کے ہیں۔ لا ادری على اى منوالٍ هو: میں نہیں جانتا وہ کس پایہ کا ہے۔ إفْعَلْ على هذا المنوال: اس طرح کرو۔ مِنوالُكَ ان لاتفعل كذا: تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

○ نَالَ ـــ نَوْلاً ہ/ل ب: کو کچھ دینا، کو کوئی چیز بطور عطیہ دینا، کو کوئی چیز پیش کرنا، کو کوئی چیز عطا کرنا، مرحمت کرنا۔ نَوَّلَ ہ: کو کوئی چیز لینے دینا، کو کوئی چیز دینا، کے پاس کوئی چیز لانا، کو کوئی چیز بہم پہنچانا، یا مہیا کرنا۔ نَاوَلَ ہ/ل ہ: کو کوئی چیز دینا، پیش کرنا، کے حوالے کوئی چیز کرنا۔ نَاوَلَ ہُ القربانَ: کو عشاء ربانی دینا۔ تناوَل ہ: کو لینا، کے لئے ہاتھ بڑھانا، کو قبول کرنا، کو حاصل کرنا، وصول کرنا، کو کھانا ـــ ہ من: کو سے لینا، کو سے حاصل کرنا ـــ ہ: کے معنی کو پوری طرح سمجھنا، یا اس کا ادراک کرنا ـــ ہ: پر بحث کرنا، تک ممتد ہونا، کو شامل کرنا۔ ہ: تک پہنچنا (نگاہ کا)۔: عشاء ربانی میں شریک ہونا۔ نَوْل جمع أنوَال: تحفہ، طریقہ، انداز، اسلوب، کپڑا بننے کی مشین، کرگھا، جہاز کا کرایہ، سامان لیجانے کے لئے جہاز کا محصول۔ نَوَال: تحفہ، کوئی چیز جو لی گئی ہو۔ مہربانی، کرم، فائدہ، مناسب، صحیح یا لازمی یا واجب، فرض۔ ليس ذلك بنوال: یہ نامناسب ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ مِنْوَل ومِنوال: کپڑا بننے کی مشین۔ کرگھا۔ مِنوال: طریقہ، انداز، اسلوب، شکل، طریقہ کار، اسلوب کار۔ دستور العمل۔ على هذا المنوال: اس طریقہ سے، اس طرح، اس انداز سے هم على مِنوالٍ واحد۔ وہ ایک ہی ڈھنگ کے ہیں، وہ سب یکساں ہیں۔ منوالك ان تفعل كذا: تمہیں اسے اس طریقہ سے کرنا ہوگا۔ مُنَاوَلَة: پیش کش، سپردگی، حوالگی، عشائے ربانی۔ تناوُل: کھانا، کھانا لینا، پینا، ادراک، پکڑ، گرفت، اثر پذیری۔ عشائے ربانی، عشائے ربانی میں شرکت۔ مُتَنَاوِل: ہاتھ بڑھانے والا، لینے والا، پکڑنے والا، چھیننے والا، عشائے ربانی میں شرکت کرنے والا۔ مُتَنَاوَل: ممکن الحصول، دستیاب، رسائی میں، ممکن الحصولی، دستیابی پہنچ، رسائی، اعسرُ متناولاً: جس تک پہنچنا مشکل ہو، جس تک رسائی دشوار ہو، تحت (في) متناولِ يده: دستیاب، کے ہاتھ میں، کے سپرد، کی تحویل میں، رسائی کے اندر، قریب ہی۔ في متناوله: کے لئے ممکن الحصول، کی رسائی میں۔ في متناولِ الجميع: ہر شخص کی آمدنی کے اندر۔ في متناولِ كل الافهام: سب کے لئے قابل فہم جسے سب سمجھتے ہیں۔ جَعَلَ ہ في متناوله: کو کسی کی پہنچ میں لانا۔ کو کسی کے لئے ممکن الحصول بنانا، کو کے لئے دستیاب کرنا۔ نَوْلُون و ناوُلُون جمع نَوَالِين: جہاز کا کرایہ، سامان لیجانے کے لئے جہاز کا محصول۔

نوم: انَامَ يَنُومُ نَوْمًا هُ: پر سونے میں غالب آنا، کہا جاتا ہے۔ نَاوَمَنِي فَنُمْتُهُ: اس نے میرے ساتھ نیند میں مقابلہ کیا تو میں اس پر غالب آیا ـــ يَنَامُ نَوْمًا ونِيامًا: اونگھنا، سونا، مرنا۔ اسم: النِيمة ـــ تِ السوقُ: بازار کا ٹھنڈا پڑنا ـــ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا (بطور استعارہ) ـــ تِ الريحُ: ہوا کا ٹھہرنا ـــ تِ النارُ: آگ کا بجھنا ـــ البحرُ: سمندر کا پرسکون ہونا ـــ العِرقُ: رگ کا حرکت نہ کرنا ـــ الرجلُ: اللہ سے عاجزی کرنا ـــ اليه: سے مطمئن ہونا ـــ عن حاجته: اپنی حاجت سے غافل ہونا۔ کہا جاتا ہے نَامَ هَمُّهُ: بے ہمت ہونا، کہا جاتا ہے: فلان لاينامُ ولايُنِيمُ: فلاں شخص نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔ نَوَّمَ تَنْوِيمًا هُ: کو سلانا۔ الرجلُ: بہت سونا ـــ تِ الابلُ: اونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَ مُنَاوَمَةً هُ: پر سونے میں غالب آنا۔ أنَامَ إنَامَةً هُ: کو سلانا، قتل کرنا۔ کہا جاتا ہے طعنتُ قِرْنِي فَأنَمْتُهُ: میں نے اپنے مدمقابل کو چھرا گھونپ کر قتل کر دیا۔ أنَامَ زيدًا: اس نے زید کو سویا ہوا پایا۔ تَنَاوَمَ تَنَاوُمًا: سونے کا بہانہ کرنا، نیند چاہنا ـــ اليه: سے مطمئن ہونا، سکون حاصل کرنا۔ إسْتَنَامَ إسْتِنَامَةً الرجلُ: سونا، نیند کا طالب ہونا، اپنے کو جھوٹ موٹ سوتا ظاہر کرنا ـــ اليه: سے نیند کا سا سکون حاصل کرنا۔ الي الشيء: سے مانوس ہونا۔ النَائِم (فا) نِيام ونُوَّم ونُيَّم ونِيَّم ونُوَّام (نِيّام و نَوْم) (آخری لفظ اسم جمع بتایا جاتا ہے) سونے والا، کہا جاتا ہے: ليلٌ نائِمٌ: گہری نیند والی رات۔ النَائِمة جمع نُوَّم: نائم کا مونث۔ مردہ النَّؤُوم: بہت سونے والا (رجلٌ نَؤُوم وامرأة نؤوم: بہت سونے والا مرد اور عورت) النَوم (مص): غشی، غشی، نیند نائم کی جمع یا اسم جمع جیسے بیان کیا گیا۔ رجُل نُوَمٌ و نُوَّام: بہت سونے والا مرد۔ النَوْمَة جمع نَوْمَات: نام کا اسم مرہ: ایک بار کا سونا۔ النُوْمَة: جس کی کوئی پرواہ نہ کرے غیر اہم۔ النُوَمَة: بہت سونے والا۔ غافل، گمنام۔ النُوام: نیند طب: نیند کی بیماری، کہا جاتا ہے: یانَوْمانُ: اے بہت سونے والے! یہ لفظ نداء کے لئے خاص ہے۔ النِيمُ: پوری نعمت، رات کا لباس۔ وہ شخص جس سے انس حاصل ہو۔ النِيمة: نام سے اسم کہا جاتا ہے: ماله نيمة ليلةٍ: اس کے پاس ایک رات کا گزارہ بھی نہیں۔ المَنَام جمع

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مَنَامات نیند، سونے کی جگہ، خواب۔ ۔ والمُستَنام: پست یا نشیبی جگہ جہاں پانی ٹھہرتا ہے۔ المَنَامَۃ سونے کی جگہ رات کا لباس۔ قبر۔ طعامٌ مَنُومَۃٌ نیند آور کھانا۔

۲۔ النِیم پوستین یا سینہ تک کی پوستین (ن) ایک نرم کانٹے کا درخت جس کے پتے چھوٹے دانے چنے کے برابر اور ترش ذائقہ ہوتے ہیں۔

ⓒ نَامَ ینامُ نومًا و نیامًا سونا، محوخواب ہونا، (ہوا، سمندر کا) ساکن ہونا، گھٹنا، کم ہونا، عام سطح پر آجانا (بازار کا) ماند پڑنا، سرد پڑنا، ٹھنڈا ہونا۔ (عضو کا سن) ہونا، بے حس ہونا۔ ـــ عن کو نظر انداز کرنا، سے چشم پوشی کرنا، پر دھیان نہ کرنا۔ کے بارے میں بھول جانا، کا نہ سوچنا۔ ـــ الی سے اندیشہ دور ہو جانا، کو قبول کرنا، کو ماننا، پر راضی ہونا، پر بھروسا کرنا، اعتماد کرنا۔ یَنَامُ مِلءَ جَفنِہ نیند بھر کر سونا۔ نَوَّمَ ہ کو سلانا، بچہ کو بستر پر لٹانا، کو بے حس کرنا، سن کرنا، پر غنودگی طاری کرنا۔ انامَ بمعنی نَوَّمَ۔ تَنَاوَمَ سویا ہوا ہونے کا بہانا کرنا۔ ـــ إلی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ إستَنَامَ ل نے سو جانا، سے غنودہ ہو جانا، کو ماننا، پر عمل کرنا، ـــ إلی پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ ـــ الی ب کو کے سپرد کرنا، ـ الی نے سے اندیشہ دور ہو جانا۔ کو خاموشی سے قبول کرنا، ـ الی: سے مطمئن ہونا۔ نَوْم نیند، خواب۔ غُرفَۃ النَوم بیڈ روم، خواب گاہ، قمیصُ النوم رات کو پہننے کی قمیض، عبا۔ نَومِی نیند سے متعلق۔ نَومَۃ: نیند، ہلکی سی نیند، جھپکی، قیلولہ۔ نَوَّام سونے کا عادی۔ سونے والا۔ نَؤُوم میٹھی نیند سویا ہوا۔ سونے کا عادی، دیر سے جاگنے والا، جو دیر تک بستر پر لیٹنے کا عادی ہو۔ مَنَام: نیند۔ جمع مَنَامات (نیند) کا خواب، مَنَام: سونے کی جگہ بیڈ روم، خواب گاہ، عام خواب گاہ۔ مَنَامۃ سونے کی جگہ، خوابگاہ، عام خواب گاہ، رات کا لباس، عبا یا قمیض۔ المَنَامَۃ بحرین کا دارالحکومت تَنوِیم سلانا، بے بس کرنا، سن کرنا، توجہ سے نیند لانے کا عمل (ہپناٹزم) مصنوعی طریقوں سے لائی ہوئی نیند۔ نومی حالت جو توجہ سے پیدا کی جاتی ہے۔ نَائِم جمع نِیام و نُوَّم و نِیَّم و نوَّام و نُیَّام سونے والا، سویا ہوا، (سن، بے حس کیا ہوا) عضو، پر سکون، آسودہ پر امن (رات)۔ مُنَوِّم خواب آور، نشہ آور دوا، عمل تنویم کرنے والا جمع مُنَوِّمات: خواب آور دوا۔ جُرعَۃٌ مُنَوِّمَۃ: خواب آور دوا کی خوراک، گھونٹ، رات کو اوڑھنے کی ٹوپی۔ دواءٌ مُنَوِّم خواب آور دوا۔

نون ۱۔ نَوَّنَ تُونِینًا "ن" کا حرف لکھنا۔ ـ الکلمۃ لفظ پر تنوین لگانا۔ النُون تلوار کی دھار۔ تلوار۔ ـ جمع نُونات و انوان حرف "نون"۔ (ہجی کا یا زیادت کا) ـ جمع نِینَان و انوَان دوات۔ ذُوالنُون عرب کی ایک تلوار کا نام۔ ـ ذُوالنُونین معقل بن خویلد کی تلوار کا نام

۲۔ النُون جمع نِینَان و انوَان (ح) بڑی مچھلی، وہیل مچھلی، حضرت یونس کا لقب یعنی نبی یونان۔ النُون جمع نُونَات (ح) مچھلی، نیک بات، چھوٹے بچے کی ٹھوڑی کا چھوٹا سا گڑھا۔

ⓒ نُونِی نون کی شکل کا، ہلال کی شکل کا۔ ھما کالتنوین والاضافۃ وہ دن اور رات کی طرح ہیں، وہ یکسر ایک دوسرے کا الٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کے مخالف یا ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ حتی الوسع مختلف ہیں۔

نوہ ۱۔ نَاہَ یَنُوہُ نَوھًا النباتُ وغیرُہ پودہ وغیرہ کا بلند ہونا۔ ـــ ت الھامۃُ الو کا سر اٹھا کر چیخنا۔ ـــ فلانٌ بالشیء: کا چیز کو اونچا کرنا۔ یَنُوہُ و یَنَاہُ نَوھَات نفسُہُ عن الشیءِ کے نفس کا کسی چیز سے رکنا، کو حقیر جانا کر چھوڑ دینا۔ نَوَّہَ تَنوِیھًا الشیءَ کو بلند کرنا۔ ـ بفلان: کو بلند آواز سے بلانا، کسی کے ذکر کو بلند کرنا۔ کی تعریف کرنا، تعظیم کرنا، کہا جاتا ہے: نَوَّھتُ بالحدیث میں نے بات کا بڑے تعریفی کلمات سے ذکر کیا، میں نے اس بات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ـــ باسمہ: کو اس کے نام سے پکارنا۔ تَنَوَّہَ تَنَوُّھا: بلند ہونا۔ النَوہ و النُوہ: کسی چیز سے رکنا۔ النَوھَۃ: ناہ کا اسم مرہ۔ النُوھَۃ بدن کی طاقت۔ النَوَّھَۃ: نوحہ کرنے والی عورت۔ النُوَّہ بین کرنے والیاں۔ کہا جاتا ہے: ھو انوَہُ من فلانٍ: وہ اس سے زیادہ مشہور یا نامور ہے۔

۲۔ النَوھَۃ دن رات میں صرف ایک مرتبہ کی خوراک۔ کھانا۔

ⓒ نَوَّہَ ہ کو اٹھانا، بلند کرنا۔ ـــ ب کبی کی تعریف کرنا، ستائش کرنا، کے گن گانا، کی تعریف کے پل باندھنا، کی تحسین کرنا، کا اچھے لفظوں میں ذکر کرنا، کو خراج تحسین پیش کرنا، پر زور دینا، کا ذکر کرنا۔ ـــ ب/ عن: کی طرف اشارہ کرنا۔ کا حوالہ دینا۔ ـــ عن کا ذکر کرنا، کا نام لینا۔ ـــ عن/ب/الی کی طرف اشارہ کرنا، تلمیح کرنا، کنایہ کرنا، کا مفہوم ہونا، کا نتیجہ ہونا، کی طرف دلالت کرنا۔ تَنوِیہ: مدح، تحسین، تعریف، ثنا، خراج تحسین، ذکر، حوالہ، اشارہ، تلمیح، کنایہ۔

نوی ۱۔ نَوَی یَنوِی نَوَاۃً و نِیَّۃً و نِیًّا الشیءَ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، کا عزم کرنا۔ القومُ منزلاً بکذا: قوم کا کسی منزل کا عزم کرنا۔ ـ اللّٰہُ فلانًا اللہ تعالیٰ کا کسی کی حفاظت کرنا (مسافر سے کہا جاتا ہے نَوَاکَ اللّٰہُ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ اور سفر میں تمہارا ساتھی ہو۔ نَوَاکَ اللّٰہ بالخیر اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی نصیب کرے)۔ نَوِیَ فلانٌ من مکان الی آخر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ـ نِیَّۃً و نَوًی المسافرُ: دور ہونا۔ نَوَّی تَنوِیَۃً فلانًا کو اس کی نیت پر چھوڑنا۔ ـــ حاجتَہُ اپنی ضرورت پوری کرنا۔ أنوَی إنوَاءً الرجلُ دور ہونا، سفر میں بہت رہنا۔ ـ حاجتَہُ اپنی ضرورت پوری کرنا۔ تَنَوَّی تَنَوِّیًا الشیءَ کا قصد کرنا۔ إنتَوَی إنتِوَاءً کا قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے: إنتَوَاہُ بنوَاتِہِ: اس نے اس کی حاجت روائی کی۔ ـ القومُ قوم کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا۔ ـ القومُ بموضعِ کذا: قوم کا کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ ـــ القومُ منزلاً مکان کذا قوم کا کسی جگہ منزل کا قصد کرنا۔ النَاوِی (فا): منتقل کا پختہ ارادہ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ ناوی القوم و منتَوَاھم فلاں شخص قوم کے امور کا مختار اور صاحب رائے ہے۔ النَوَی (مص) دوری، وہ جگہ جہاں کا مسافر ارادہ کرے، نزدیک ہو یا دور۔ گھر۔ (کہا جاتا ہے: اِستَقَرَّت نوی القوم بموضع کذا و کذا: قوم نے فلاں فلاں جگہ اقامت کی) النِوِیّ: ہم نیت۔ النِیَّۃ قصد و ارادہ، دل کا عزم۔ ارادہ کا رخ، معاملہ، مسافر کے سفر کی غایت، قریب ہو یا بعید، کہا جاتا ہے: شَطَّت بھم نِیَّۃٌ قُذُفٌ دور کے سفر نے ان کو دور پھینک دیا) و نَوَوا نیۃً قُذُفًا: انہوں نے دور کی جگہ کا ارادہ کیا۔ بعض اوقات یاء مخفف آتی ہے اور کہا جاتا ہے: نِیَۃ جمع نِیَات حاجت۔ ضرورت، (کہا جاتا ہے: لی فی بیت فلان نِیَّۃٌ: میری فلاں کے گھر میں ضرورت ہے۔

۲۔ نَوَی یَنوِی نَوًی النَوَاۃَ: گٹھلی پھینکنا۔ نَوَّی تَنوِیَۃً ت البُسرۃُ: کچی کھجور کا گٹھلی والا ہونا۔ ـــ فلانٌ: گٹھلی پھینکنا۔ أنوَی إنواءً ت البُسرۃُ کچی کھجور کا گٹھلی والا ہونا۔ ـــ فلانٌ: گٹھلی پھینکنا۔ إستَنوَی إستِنوَاءً الرجُلُ: گٹھلی پھینکنا۔ النَوَّاء: کھجور کی گٹھلیاں بیچنے والا۔ النَوَی: کھجور کی گٹھلیاں (نواۃ التمر کی جمع اس معنی میں مذکر و مونث استعمال ہوتا ہے) النَوَاۃ جمع نَوًی و نَوَیَات جمع الجمع انوَاءٌ و نِوِیّ و نُوِیّ: کھجور کا دانہ یا بیج (گٹھلی)

۳۔ نَوَی یَنوِی نَیًّا و نَوَایَۃً و نِوَایَۃً ت الناقۃُ: اونٹنی کا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

موٹی ہونا۔ صفت نَاوِیَۃ و نَاوٍ جمع نِوَاء النَاوِی: اونٹنی کا کوہان۔ النَیّ (مص) چربی النِیّ موٹاپا۔

۴۔ نَوَّی تَنْوِیَۃً السِنَّوْرُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ (سریانی کی عام زبان میں)

۵۔ نَاوَی مُنَاوَاۃً ہُ: سے دشمنی کرنا (اصل ہمزہ ہے)

○ نَوَی یَنْوِی نِیَۃَ ونواۃً ہ: کا ارادہ کرنا یا ارادہ ہونا، کا منصوبہ بنانا، کو ذہن میں رکھنا، کو کرنے کا عزم کرنا۔ — یَنْوِی نَوًی عن / من: سے غیر حاضر ہونا، سے دور جانا۔ نَوَّی (بلی کا) میاؤں میاؤں کرنا۔ نَاوَاہُ: کو دشمن بنانا، سے لڑنا جھگڑنا، کا مخالف اور دشمن ہونا، کے خلاف ہونا، معاندانہ ہونا، اپنے کو کسی کا دشمن ظاہر کرنا۔ اِنْتَوَی ہ: کا ارادہ ہونا، مقصد ہونا، کو کرنے کا ارادہ ہونا۔ نَوًی دوری، فاصلہ، منزل مقصود۔ نَوًی: (اسم جمع گٹھلیاں (کھجور کی)، پھلوں کی گریاں، گٹھلیاں، نَوَاۃ جمع نَوَیَات کھجور کی گٹھلی، پھلوں کی گری، گٹھلی، گودا، مغز، بیج دان، مرکز وسط، ایٹمی مرکزہ، مرکزی حصہ، مرکزی نقطہ، نقطہ آغاز۔ نَوَاۃ الذَرَّۃ: ایٹمی مرکزہ۔ نَوَوِی مرکزی، ایٹمی۔ جوہری۔ ایٹمی۔ و اسلحۃ نوویۃ جوہری ہتھیار، اسلحہ۔ نَیّ فربہ، موٹا۔ نِیَۃ جمع نِیَات ونوایا: ارادہ، قصد، مقصد، منصوبہ، سکیم، عزم، ارادہ کا رخ، سمت، رجحان، میلان، جھکاؤ، خواہش، علی نیۃ: کے ارادہ سے۔ فی النیۃ ان: کا ارادہ ہے یا ارادہ ہے کہ حُسن النیۃ: نیک ارادہ، خیراندیشی، خیرسگالی، اخلاص، دیانت۔ سلامۃ النیۃ: بھولا پن۔ بے ریائی، اخلاص، معصومیت، بے گناہی۔ نیک نیتی، خلوص۔ سلیمُ النیۃ: بے ریاء، سیدھا سادھا، سادہ لوح، مخلص، سادہ دل، طباع۔ سُوء النیۃ: برا ارادہ، عدم خلوص، منافقت، بدباطنی، کینہ، عیاری، چالاکی، فریب، مکر، دغا، دھوکا، چال، داؤں، بدنیتی۔ بسوء النیۃ: بدنیتی سے صافی النیۃ: مخلص، صاف دل، صاف گو، صاف باطن، بے لاگ، اخلاص مند، راستباز، ایماندار، پُرخلوص۔ أخلَصَ لہُ النیۃ: سے وفادارانہ طور پر وابستہ ہونا۔ أَخلَصَ نیتہُ لِ: سے وفادارانہ طور پر وابستہ ہونا، کی جانب اچھے ارادے رکھنا۔ حَسُنَتْ نِیتُہُ فی: سے وفادارانہ طور پر وابستہ ہونا، کی طرف اچھے ارادے رکھنا۔ أصلَحَ نیتہ: دل میں صحیح ارادہ ابھارنا، عَقَدَ النیۃ علی: کا پختہ ارادہ کرنا، کو کرنے کا عزم صمیم کرنا، کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنا۔ مُنَاوٍ مخالف، معاند، دشمن۔

نیء: نَاءَ یَنِیءُ نَیْئًا ونُیُوءً ونُیُوءَۃً اللحمُ وغیرُہ: گوشت وغیرہ کا کچا ہونا۔ نَیَّأَ تَنْیِئًا الامرَ: کام کو ناقص طور سے کرنا۔ أنْیَأَ إنْیَاءً اللحمَ: گوشت کو کچا رکھنا۔ النِیءُ من اللحم: کچا گوشت یا نیم پختہ گوشت (اسے النِیُّ من اللحم بھی کہہ سکتے ہیں)۔ — خالص دودھ

○ نَاءَ ـِ نَیْئًا ونُیُوءً ا ونُیُوءَۃً: کچا ہونا، پکایا ہوا نہ ہونا (خصوصاً گوشت کا) نِیء ونِی: کچا، ناپختہ، کل، مجموعی (وزن)

نیب: نَابَ یَنِیبُ نَیْبًا ہُ: کو دانت پر مارنا۔ نَیَّبَ تَنْیِیبًا النَاقۃُ: اونٹنی کا بوڑھی ہونا۔ — النبتُ: نباتات کی جڑیں پھوٹنا۔ — فلانٌ السہمَ: تیر کی لکڑی پر دانت لگا کر نشان ڈالنا۔ — زیدٌ: دانت پیسنا، دانت سے کاٹنا۔ — فلانًا: کو دانت سے کاٹنا، کہا جاتا ہے: ظَفَّرَ فیہ السبعُ ونَیَّبَ: درندے نے اس پر ناخن چبھو کر اسے دانتوں سے کاٹا۔ تَنَیَّبَ تَنَیُّبًا النبتُ: پودے کا جڑیں نکالنا۔ — الشیبُ: بڑھاپا ظاہر ہونا النَاب جمع أنْیُب وأنْیَاب ونُیُوب وأنَایِیب: کچلی، بوڑھی اونٹنی، تصغیر نُیَیْب جمع أنیاب ونُیُوب ونِیب و نابُ القوم: قوم کا سردار۔ النَیُوب: بوڑھی اونٹنی۔ الأنْیَب م نیباء جمع نِیب: موٹے دانتوں والا۔

○ نَاب جمع أنْیَاب ونُیُوب وأنَایِیب: دانت، ہاتھی کا دانت، شکاری جانور کا بڑا دانت۔ کَشَّر عن انیابہ: دانت ننگے کرنا۔ نِیتْرُوجِن نائٹروجن (Nitrogen)

نیت: نَاتَ یَنِیتُ نَیْتًا: کمزوری سے ڈگمگانا۔

نیح ۱۔ نَاحَ یَنِیحُ نیحاً العظمُ: ہڈی کا سخت اور مضبوط ہونا۔ نَیَّحَ تَنْیِیحًا اللّٰہُ عَظْمَہُ: ہڈی کو مضبوط کرنا (خدائی فعل)، کو چوڑا چورا کرنا، کہتے ہیں: مانَیَّحْتُہُ بخیر: میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ لا نَیَّحَ اللّٰہُ عظامَہ: اللہ اس کی ہڈیاں سخت اور مضبوط نہ کرے۔ نَیَّحَہُ فتَنَیَّحَ: اس نے اس کو آرام دیا تو اس نے آرام کیا۔ النَیِّح: سخت۔ عظم نَیِّحٌ: سخت ہڈی۔

۲۔ نَاحَ یَنِیحُ نَیْحًا ونَیَحانًا الغُصنُ: شاخ کا جھکنا۔

۳۔ تَنَیَّح فلانٌ: مرنا (سریانی لفظ)

○ مُتَنَیِّح: متوفی، آنجہانی جس کی موت پر افسوس ہو، مرنے والا۔

نیر ۱۔ نَارَ یَنِیرُ نَیْرًا ونَیَّرَ تَنْییرًا وأنَارَ إنَارَۃً الثوبَ: کپڑا بننا۔ النَیَّار: کپڑے میں کنارہ لگانے والا۔ النِیْر: بانا، کپڑے کے لمبان کے تار، کپڑے کا باڈر، کپڑے کا نقش ونگار، کپڑے کا چھور، راستہ یا سڑک کا کنارہ۔ بُت، راستہ کی نمایاں کھائیاں کہا جاتا ہے: رجُلٌ ذو نِیرَیْنِ: اپنے ساتھی سے دگنی قوت کا مالک۔ حربٌ ذات نِیرَیْن: سخت جنگ۔ ناقۃُ ذاتُ نِیرَین او ذاتُ انیار بوڑھی اونٹنی۔ کبھی عورت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ — ج أنْیَار ونیران: بیلوں کی گردن پر رکھنے کا جوا۔ النِیرَۃ: نَیَّر الثوب کا اسم۔ جلاہے کا کپڑے بننے کا ایک اوزار کہتے ہیں۔ ما انتَ بستاۃ ولا لُحمۃ ولا نیرۃٍ: تو نہ تو نفع بخش ہے نہ ضرررساں۔ ھذا أنْیَر من ذاك: یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ ثوبٌ مُنَیَّر: دوسوتی کپڑا۔

۲۔ النَائِر: شرانگیز (شخص) النِیرَۃ عند العامۃ: مسوڑا، کہا جاتا ہے: بینھم مُنَایَرَۃٌ: ان کے درمیان اختلاف (نااتفاقی) ہے المُنَیَّر موٹی جلد۔

۳۔ نَیْرَبَ الرجلُ: چغلی کھانا، جھوٹ گھڑنا، جھوٹ بولنا۔ — ت الریحُ الترابَ فوق الشیٔ: ہوا کا کسی چیز پر مٹی کی ہلکی موجیں پیدا کرنا یا ہلکورے اٹھانا۔ النَیْرَب: نِبا کنا آدمی، چغل خوری، فساد۔ رجُلٌ نَیْرَبٌ وذو نَیْرَب: شریر آدمی۔

۴۔ نَیْرَجَ نَیْرَجَۃً الرجُلُ: چغلی کھانا۔ النَیْرَج: چغل خور، کپڑے کا بیل بوٹا، ہل کی پھالی، غلہ گاہنے کا آلہ۔ ریحٌ نَیْرَجٌ: تند ہوا۔ امرأۃٌ نَیْرَج: نفرت انگیز چالاک عورت۔ کہا جاتا ہے: عدا عدوًا نَیْرَجًا: وہ تیزی اور تذبذب سے دوڑا۔ ہر تیز رفتار نَیْرَج ہے۔

۵۔ النَیرُوز عند الفُرس: شمسی سال کا پہلا دن (عموماً) جشن کا دن۔

نیز: النَیزك جمع نَیَازِك: چھوٹا نیزہ (فلک) شہاب ثاقب۔

نیس ۱۔ نَیْسَب والنَیْسَبُ والنیسانُ: (اس کے لئے دیکھو مادہ (ن س ب)

۲۔ نَیْسان اپریل (مہینہ کا نام (سریانی لفظ)

نیص: النَیْص: کمزور حرکت۔ (ح) خونی سیہی، خار پشت، سیہ۔

نیض: نَاضَ یَنِیضُ نَیْضًا العرقُ: رگ کا حرکت کرنا۔

نیط: نَاطَ یَنِیطُ نَیْطًا وإنْتَاطَ إنْتِیاطًا: دور ہونا۔ النَیْط (مص) جنازہ، تابوت، موت، اجل موت، کہا جاتا ہے: أتَاہُ نَیْطُہُ: اس کی اجل آگئی۔ رَمَاہُ اللّٰہ بالنَیْطِ: کو اللہ تعالیٰ کا موت دینا۔ طعن فلانٌ فی نَیْطِہِ: وہ مر گیا (یہاں نیط جنازہ (تابوت) کے معنی میں ہے۔ لفظی معنی ہے: وہ اپنے تابوت میں داخل ہو گیا)

نیع: نَاعَ یَنِیعُ نَیْعًا الغُصنُ: ٹہنی کا جھکنا۔ صفت نَائِع۔ النَوَائِع: جھکنے والی ٹہنیاں۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

☸ نِیقُوْسِیا: نکوسیا (جزیرہ سائپرس کا دارالحکومت) نَاكَ يَنِيكُ نَيْكًا ها: عورت سے مجامعت کرنا۔ نِيكَل: نکل (دھات کا نام) Nickel

نیل: ۱۔ نَـالَ يَـنِـيلُ وَيَـنَـالُ نَيْلاً وَ نَـالاً وَ نَـالَةً المطلوبَ: مطلوب چیز کو پانا۔ صفت فاعلی: نَائِل صفت مفعولی: مَنِيل: ۔ امر کا صیغہ نِلْ وَنَلْ۔ ــ من فلان: پر اثر انداز ہونا، کو نقصان پہنچانا کہا جاتا ہے: نال من عدوّہ مطلوبہ: اس نے دشمن سے اپنا مقصد حاصل کرلیا۔ نَـالَـه مَطْلُوبَهٗ: اس کی مطلوبہ چیز دلانا۔ نَالَنِي من فلان معروفٌ فلاں کی طرف سے مجھ کو بھلائی پہنچی۔ نَالَ من عرض فلان: کی بے عزتی کرنا، کو گالی دینا۔ نَالَ الرحيلُ کوچ کا وقت آ پہنچا۔ اما نال لهم ان يفقهوا: کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ سمجھیں۔ أَنَالَ إِنَالَةً فلانًا الشيءَ و لفلان الشيءَ: کو کوئی چیز حاصل کرانا، دلانا۔ اِسْتَـنَـالَ اسْتِنَـالَةً ہٗ: کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہونا۔ النَّـائِل (فا): جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے: اصبت منه نائلاً: میں نے اس سے حاصل کی جانے والی چیز حاصل کی۔ النُّـوْلة: جو حاصل کیا جائے۔ النَّيْل: جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے: اصاب منه نيلاً: اس نے اس سے حاصل کی جانے والی چیز پائی۔ النِّيل: بادل: النَّيْلَة: جو حاصل کیا جائے۔

۲۔ النَّـالَة گھر کا صحن۔ النِّيل (ن): نیل کا پودہ۔ ایک سخت تنے، باریک شاخوں چھوٹے پتوں کا پودا، جس کے دونوں طرف پتھر کا فرش ہوتا ہے۔ نیل (پودوں سے حاصل کیا ہوا رنگ)

۳۔ النِّيلَج: نیل کا رنگ۔ ـ و النِّيلَنْج: چربی کا کاجل جو گودنے کے کام میں آتا ہے۔ عربی میں اس کا نام النَّوُور ہے۔

۴۔ النَّيْلُوفَر (ن): نیلوفر۔ النَّيْلُو فَرِيَات (ن): خوبصورت آبی پودے۔

۵۔ النَّيلُون: نائلون، نیلون Nylon (ایک مادہ جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں)

☸ نَالَ ـَ نَيْلاً و مَنَالاً ہ کو حاصل کرنا، پر قابض ہونا، کو جیتنا، کمانا۔ ــ ہ ل کو کیلئے حاصل کرنا۔ ــ من ہ: سے کسی چیز کو بچالانا۔ ــ من ہ کے ساتھ میں کامیاب ہونا۔ ــ ہ من سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ ــ من پر اثر انداز ہونا، کو نقصان پہنچانا، کا کی طرف سے دل پھیرنا، نال من عرضه کی برائی کرنا، مذمت کرنا، کو بے وقعت کرنا، کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، پر تہمت لگانا، کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، پر تہمت لگانا۔ نال منه اوفر منال: کو سخت نقصان پہنچانا۔ ناله بسُوء: کو نقصان پہنچانا۔ نَالَهُ بِضُرّ: کو نقصان پہنچانا، نال من نفسه ابلغ منال: اس (بات) نے اس پر گہرا ترین اثر کیا۔ أَنَالَ ہ/ل ہ کو کوئی چیز حاصل کرانا۔ دلانا یا کوئی چیز حاصل کرنے دینا۔ ـــ ہ ل / ہ ہ: کیلئے کوئی چیز حاصل کرنا، نَيْل حصول۔ اکتساب، دستیابی، ہمدردی، مہربانی، کرم فرمائی۔ مَنَال حصول، کامیابی، کارنمایاں، اکتساب، دستیابی۔ بعید المنال: ناممکن الحصول، غیر محسوس، حقیقت سے بعید۔ صعبُ المنال: ناممکن الحصول۔ سَهْلُ المنال یا قريبُ المنال: ممکن الحصول، جسے حاصل کرنا آسان ہو۔ ممكن المنال ممکن الحصول۔ نائِل: حاصل کرنے والا، کمانے والا، جیتنے والا، کرم فرمائی، مہربانی، ہمدردی، فائدہ، نفع، عنایت، عطیہ، تحفہ۔ نَيَّلَ ہ کو نیل دینا (نیل سے رنگنا)۔ نِيل و نِيلة: نیل کا پودا، نیل۔ مُنَيَّل نیل دیا ہوا۔ نَيَّلَ دریائے نیل کے پانی کو مٹی زرخیز بنانے کے لئے کھیتوں میں بھیجنا۔ النِّيل دریائے نیل۔ زمن النيل: دریائے نیل کی طغیانی کا وقت۔ عرائس النيل: بمن، نرگس یا سوسن آبی پودے کے سفید پھول۔ نِيلي: دریائے نیل کا۔ مَنْيَل: نیلومیٹر: دریائے نیل کی سیلابی بلندی ناپنے کا میٹر۔ تَنْيِيل آبپاشی یا سیلاب کے ذریعے مٹی کو زرخیز بنانا۔

نیه: نَاهَ يَنَاهُ نَيْهًا الشيءُ: چیز کا بلند ہونا، پسند آنا۔ النَّائِه: بلند، اونچا، نمایاں۔ کہا جاتا ہے: نفسٌ نَاهَةٌ: بدی سے رکنے والا النفس۔

نیم: النيم دیکھو مادہ ن وم

☸ نِيْنَه نَان

نیو: النِّيُون (ف) نیون (neon)

☸ نِيُور الجيا اعصابی درد۔

نِيُوزِيلانْدَه نیوزیلینڈ (ایک ملک کا نام)

ضوء نيوني نیون روشنی Neon light

نَيّ: النَّيِّ جمع نَايَات (مو) بانسری (فارسی لفظ)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

و

و: تلفظ الواو۔ حروف تہجی کا ستائیسواں اور حروف ابجد میں اس کا عدد "٦" ہے۔ مندرجہ ذیل معانی دیتا ہے۔

(۱) حروف عطف جس کا معنی جمع کرنا ہے اور دو لفظوں یا جملوں کو جمع کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں "اور" کے معنے دیتا ہے۔ جیسے جاء زیدٌ و عمروٌ: زید اور عمرو آئے۔

(۲) واو الحال: (الف) جملہ اسمیہ پر آتا ہے جیسے جاء زیدٌ والشمس طالعةٌ: زید سورج طلوع ہونے کے وقت آیا۔ (ب) جملہ فعلیہ پر آتا ہے جیسے: جاء زید وقد طلعت الشمسُ: جب زید آیا تو سورج نکل چکا تھا۔

(۳) واو الاستئناف (لزوم): جیسے: لاتاکل السمك و تشربُ اللبن دودھ پینے کے ساتھ مچھلی نہ کھاؤ یعنی ایسا نہ کرو کہ مچھلی کھاؤ اور دودھ بھی پیو۔

(۴) واو المعیة جیسے: سرتُ والجبالَ میں پہاڑ کے ساتھ چلا۔

(۵) مضارع منصوب پر داخل ہونے والی واو، جب مضارع منصوب صریح اسم پر عطف ہو جیسے: ولبسُ عباءةٍ و تقرَّ عینی: عباء پہننا اور خوش ہونا، یا اس کی صریح اسم سے تشریح کی گئی ہو جیسے: لاتنهَ عن خُلُقٍ و تأتی مثلهُ: بایں شرط کہ واو سے پہلے نفی یا طلب آئے۔ (اپنے آپ کو جبلی خصوصیت سے نہ روک جس جیسی خصوصیت کو تو بروئے کار لاتا ہے)۔

(٦) واو قسم جیسے: واللّٰه العظیم: خدائے عظیم کی قسم۔

(٧) واو رُب جیسے: ولیلٍ کموج البحر ارخی سدولهٗ: سمندر کی لہر کی طرح کئی راتوں نے پردے گرائے۔

(۸) واو ضمیر الذکور جیسے: قاموا: (وہ کھڑے ہوئے)۔

(۹) واو علامة جمع مذکر: جیسے: یلومونني قومي: میرے بھائی بند مجھے ملامت کرتے ہیں۔

(۱۰) واو فصل جیسے واؤ عمرو رفعی اور جری حالت میں تاکہ عمر سے ممتاز ہو۔

(۱۱) واو زائدہ مثلاً الا کے بعد جیسے: مَامِن احدٍ الا ولہ طمعٌ او حسدٌ: لالچ یا حسد کے بغیر تو کوئی بھی نہیں۔

○ و: اور۔ اور نیز اور۔ بھی۔ ولا واحد: ایک نہیں، صرف ایک نہیں۔ (۲) ساتھ۔ وإیّاهُ: اس کے ساتھ۔ لایتّفِقُ و مَبَادِئَهُمْ: یہ ان کے اصولوں سے ہم آہنگ نہیں۔ (۳) کے دوران میں، جب، حالانکہ۔ قال و هو یتبسم: اس نے مسکرانے کے دوران کہا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جاء والشمسُ طالعةٌ: وہ طلوع آفتاب کے وقت آیا۔ (۴) (کی) قسم: واللّٰہ: خدا کی قسم۔ (۵) کئی، کتنے۔ وکأسٍ شربتُ: میں نے کئی پیالے خالی کئے ہیں۔ میں نے کتنے ہی پیالے پی ڈالے ہیں۔ وإلا: اور اگر نہیں، اور طرح، ورنہ۔ وإن: اگرچہ، ہرچند، باوجودیکہ، گو۔ ولَو: اگرچہ، ہرچند، باوجودیکہ، گو، اُس صورت میں۔ ولکِنْ و لکِنَّ: لیکن، مگر، تاہم، پھر بھی۔

وا: یہ واو ندبہ سے مختص حرف نداء ہے۔ جیسے: وا زیداهُ: ہائے زید! واظُهراهُ: ہائے دوپہر، کبھی کبھی حقیقی نداء کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

○ وابور: سٹیم انجن، بھاپ سے چلنے والا انجن، سٹیمر، بھاپ سے چلنے والا جہاز، دخانی کشتی، دخانی جہاز، ریل کا انجن، ریل گاڑی، فیکٹری، ہیٹر، سٹوو، مل، مشین، انجن، سامان، گرم چادر (دھات کی)۔ وابور اکسبریس: ایکسپریس ٹرین، تیز رو، تیز گام، سبک خرام۔ وابور البضاعة: مال گاڑی۔ وابور الرّکاب: پسنجر ٹرین۔ وابورُ الريّ: آبپاشی پمپ۔ وابورُ الزّلَط: سٹیم رولر (سڑک کوٹنے کا انجن)۔ وابور طارة: چپو کشتی۔ وابور العادة: لوکل ٹرین۔ وات: واٹ (برقی قوت کی اکائی)

واح: الوَاح و الواحَة جمع واحَات: نخلستان (ریگستان میں سبزہ زار)۔

وأ: وَأَ وَأَ وَأْوَءَةً الکلبُ: کتے کا چیخنا۔ کہا جاتا ہے: ماسمعت الا وعوعةَ الذئاب و وأوأةَ الکلاب: میں نے بھیڑیوں اور کتوں کی چیخنے کی آوازوں کے سوا کچھ نہیں سنا۔

وأب: ۱۔ وَأَبَ یئِبُ وَأْبًا و إِبَةً من فلان: کسی سے شرم وحیا کرنا اور جھجکنا۔ أَوْأَب و أتْأَبَهُ: کے ساتھ شرمناک فعل کرنا، کو حاجت سے ذلت کے ساتھ پھیر دینا۔ إتّأَبَ إتّآبًا منه: سے شرم وحیا کرنا۔ الإبَة و التُّؤَبَة والمَوْئِبة و المُوئِبَة: رسوائی، عار، حیا۔ المُوئِبات: رسوا کرنے والے کام۔

۲۔ وَئِبَ یَوْأَبُ وَأَبًا: غضبناک ہونا۔ أوْأَبَ و اتّأبَهُ: کو غضبناک کرنا۔

۳۔ الوَأْب جمع أوْآب: بڑا اونٹ۔ ۔ من الحوافر: متصل کناروں والا مضبوط کھر۔ ۔ من القداح: بڑا پیالہ، وسیع، کشادہ۔ الوَأبَة: چٹان کا گڑھا۔ ۔ والوئِبَة: گہرا کنواں۔

وأج: الوَأْج: سخت بھوک۔

وأد: وَأَدَ یَئِدُ وَأْدًا البنتَ: لڑکی کو زندہ درگور کرنا۔ صفت مفعولی: وَئِید و وَئِیدَة و مَوْؤُدة۔ ۔ فلانًا: کو بوجھل کرنا۔ تَوَأَّدَ فی الامر: کسی امر میں مہلت و

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آہستگی سے کام لینا۔ ــت علیه الارضُ: زمین کا کسی کو چھپانا، غائب کرنا۔ ــتِ المرأۃُ فی قیامھا: بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے عورت کا لچکنا اِتَّأَدَ فی الامر: کسی کام میں مہلت اور آہستگی سے کام لینا۔ الوَأْد (مص): سخت دھماکا جیسے دیوار گرنے سے ہوتا ہے۔ اونٹ کی آواز الوَئِید: سخت آواز، اونٹ کی آواز، پیروں کی آہٹ جو دور سے سنائی دے ــــ والتُّؤَدَة و التَّزَآد: سنجیدگی، متانت۔ کہا جاتا ہے: مشی مشیاً وئیداً: وہ متانت اور سنجیدگی کی چال چلا المَوَائِد: مصائب۔

وَأَدَ یَئِدُھا: نومولود بچی کو زندہ دفن کرنا تَوَأَّدَ و اِتَّأَدَ فی: میں آہستہ ہونا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا یا اٹھاتے رہنا، سستی کرنا، ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متأمل ہونا، تأمل کرنا، تاخیر کرنا، دفع الوقتی کرنا اِتَّأَدَ فی مِشْیَتِهِ: آہستہ چلنا بُہلنا وَئِید: آہستہ، سوچ سمجھ کر اٹھا ہوا (قدم)، سوچ بچار وئیداً: آہستہ، بتدریج تُؤَدَة: سوچ سمجھ، سوچ بچار، آہستگی علی تؤدۃ: آہستہ، سوچ سمجھ کر مُتَّئِد: آہستہ۔

وأر: ۱ وَأَرَ یَئِرُ وَأْرًا و إِرَةً الرجُلَ: کو گھبرا دینا ــــ النارَ و للنارِ: آگ جلانے کے لئے گڑھا تیار کرنا۔ ــــ وَأَّرَ تَوْئِیراً فلاناً: کو مصیبت میں ڈالنا أَوْأَرَ إِیئاراً ہُ: کو خوفزدہ کرنا، دور بھگانا اِسْتَوْأَرَتِ الابلُ: اونٹوں کا بدک کر پہاڑ پر چڑھ جانا الوَائِر (فا): خوفزدہ الإِرَة: آگ، دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت، اوجھ میں رکھ کر پکایا جانے والا گوشت، آگ کی شدت اور بھڑک، دشمنی، کوہان کی چربی ــــ جمع إِرَات و إِرُون والوُؤْرَة جمع وُأَر و أُوَر: چولہا، انگیٹھی ارض وَئِرَة: سخت گرم زمین الوِئَار: چکنی مٹی کے گڑھے۔

۲ أَوْأَرَ إِیئاراً ہُ: کو آگاہ کرنا۔

وَأَرَ یَئِرُ وَأْراً ہُ: کو ڈرانا اِسْتَأْرَ: ڈرنا، دہشت زدہ ہونا وارْسُو: وارسا (پولینڈ کا دارالحکومت) وَاشِنْطُون: واشنگٹن (امریکہ کا ایک مشہور شہر)

وأص: وَأَصَ یَئِصُ وَأْصًا به الارضَ: کو زمین پر دے مارنا۔

۲ تَوَاءَصَ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا، پانی پر بھیڑ کرنا۔ الوَئِیصَة: جماعت، مخلوق۔ کہا جاتا ہے ما أدری أیُّ الوئیصۃ ھو: میں نہیں جانتا وہ کونسا آدمی ہے۔

وأط: ۱ وَأَطَ یَئِطُ وَأْطًا القومَ: لوگوں سے ملاقات کرنا۔

۲ وَأَطَ یَئِطُ وَأْطًا الشیءُ: جوش میں آنا الوَاْطَة مِنَ الأرضِ: بلند زمین ــــ مِنَ الماءِ: پانی کی گہرائی۔

واط: واٹ (Watt، برقی قوت کی اکائی) وَاق واق: (عربی جغرافیہ دانوں کے نزدیک جزیروں کے دو مختلف مجموعوں کا نام (ایک چین کے مشرق میں دوسرا بحر ہند میں)۔

وأل: ۱ وَأَلَ یَئِلُ وَأْلاً و وَئِیلاً و وُؤُولاً و وَاءَلَ وِئالاً و مُوَاءَلَةً المکانُ: جگہ کا تہہ بہ تہہ مینگنیوں والا ہونا أَوْأَلَ المکانَ: جگہ کو تہہ بہ تہہ مینگنیوں والا کرنا۔ ــــت الماشیة فی المکان او الکلاء: مویشی کا جگہ یا چراگاہ کو پیشاب اور مینگنیوں سے خراب کرنا۔ اِسْتَوْأَلَ اِسْتِیئالاً تِ الابلُ: اونٹوں کا اکٹھا ہونا۔ الوَأْلَة: اونٹوں اور بکریوں کی تہہ بہ تہہ مینگنیاں۔

۲ وَأَلَ یَئِلُ وَأْلاً و وَئِیلاً و وُؤُولاً و وَاءَلَ وِئالاً و مُوَاءَلَةً من کذا: سے نجات طلب کرنا ــــ الیه: کے پاس پناہ لینا ــــ الی المکان: کسی جگہ دوڑ کر جانا ــــ فلاناً: کو پناہ بنانا ــــ إلی اللّٰهِ: اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا الوَأْل و المَوْئِل و المَوْأَلَة: جائے پناہ۔

۳ الأَوَّل: مادہ اول دیکھیں۔

وأم: وَأَّمَ یُوَئِّمُ تَوْئِیمًا ہُ: کو بدشکل کرنا المُوَأَّم: بدشکل، بڑے سر والا۔

۲ وَاءَمَ وِئامًا و مُوَاءَمَةً ہُ: سے موافقت کرنا۔ ضرب المثل ہے لولا الوِئامُ لھلك الانام: اگر موافقت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے (ہر شخص دوسرے کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا)۔ کہا جاتا ہے لولا الوئام هلك اللئام: اگر ہر شخص حسن وخوبی میں فخر کرتا ہوتا اور نیک عمل نہ ہوتا تو کمینے لوگ ہلاک ہو جاتے أَتْأَمَ إِتْآماً تِ المرأۃُ: عورت کا جڑواں بچے جننا۔ صفت: مُتْئِمٌ تَوَاءَمَ: موافق ہونا؛ متناسب ہونا الوَأْم: گرم کمرہ الوَامَة: نقال، ریس کرنے والا المُتَوَائِم فا غناءٌ مُتَوَائِمٌ: متناسب گیت، ہم آہنگ سر والا گانا۔

وَاءَمَ ہ/ہ: سے ہم آہنگ ہونا، سے اتفاق کرنا، سے متفق ہونا، کے لئے موزوں ہونا، کو راس آنا، کی ضرورتوں کے لئے کافی ہونا تَوَاءَمَ: ہم آہنگ ہونا، متفق ہونا، مطابق ہونا وِئام: اتفاق، اتحاد، ہم آہنگی، مطابقت، میل مُوَاءَمَة: اتفاق، اتحاد، ہم آہنگی، مطابقت، میل۔

وأی: ۱ وَأَی یَئِی وَأْیًا: وعدہ کرنا ــــ الشیءَ: کا ذمہ لینا ... اِتَّأَی اِتِّئاءً: ... سمجھوتا ہونا اِسْتَوْأَی اِسْتِیئاءً الرجلَ: سے وعدہ لینا الوَأْی (مص): وعدہ، وہم، گمان۔

۲ تَوَاءَی تَوَائِیًا القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا الوَأْی: لوگوں کی تعداد الوَأْی م وَآة من الدواب: بہت تیز رفتار جانور الوَئِیَّة: بڑے بڑے پیالے، بڑے پیٹ والی اونٹنی ــــ والوَأْیة: بڑی ہانڈی، بڑا پیالہ۔

وَاہَ و وَاھًا ل/ب: وہ کتنا حیرت انگیز ہے (یا ہیں)۔ ــــ علی: افسوس...... کے لئے بہت برا وَاوٌ: حرف وَاوِیَة: کیتلی۔

وبّ: وَبَّ یَوُبُّ وَبًّا: لڑائی میں حملہ کے لئے تیار ہونا۔

وبأ: ۱ وَبَأَ یَوْبَأُ وَبْأً و وَبَّأَ المتاعَ: سامان کو ترتیب سے جمانا وَبِئَ یَوْبَأُ و یَیْبَأُ وَبْأً و وَبُؤَ یَوْبُؤُ وِباءً و وَباءَۃً و إِباءً و إِباءَۃً و وُبِئَ یُوبَأُ وَبْأً و أَوْبَأَ المکانُ: کسی جگہ کا وبا زدہ یا زیادہ وبا والی ہونا۔ اسم۔ البَنَة تَوَبَّأَ البلدَ: شہر کی آب وہوا کو ناموافق پانا۔ اِسْتَوْبَأَ اِسْتِیباءً المدینةَ: شہر کو وبا زدہ پانا الوَبَأ جمع أَوْباء و الوَبَاء جمع أَوْبِئَة: عام متعدی یا وبا کی بیماری الوَبِیء والوَبِئ والموبُوء: بہت وبا والی (جگہ) ان کا مؤنث ت سے آتا ہے۔

۲ وَبَأَ یَوْبَأُ وَبْأً و أَوْبَأَ إلیه: کی طرف اشارہ کرنا۔

۳ المُوبِئُ (فا): تھوڑا پانی۔ منقطع پانی۔

وَبِیَ یَوْبَأُ وَبْأً و وَبُؤَ ــوَباءً و وَباءَۃً أوبِئَ: پلیگ زدہ ہونا، چھوت زدہ ہونا، پھیلی ہوئی بیماری کے جراثیم والا ہونا، زہریلا ہونا، میں کثرت سے ہونا، زہر آلود ہونا، مسموم ہورنا، آلودہ ہونا، ناپاک ہونا، میں جراثیم کا پہنچا ہوا ہونا وَباء جمع أَوْبِئَة: متعدی یا وبائی مرض، وباء وَبَائِی: وبائی، متعدی، چھوت والی، اڑتی یا لگتی بیماری والا، مہلک، اخلاقی یا سیاسی (وغیرہ) طور پر ضرر رساں وَبِئ و وَبِیء: بمعنی وَبَائِی۔ مَوْبُوء: زہریلا، مسموم، زہر آلود، آلودہ، ناپاک ــــ ب: میں سرایت شدہ، بیماری وغیرہ لگا ہوا، سے متاثر۔

وبت: وَبَتَ یَبِتُ وَبْتًا بالمکان: جگہ میں اقامت کرنا۔

وبخ: وَبَّخَ ہُ: کو ملامت کرنا، دھمکی دینا، عار دلانا۔ الوَبْخَة: ملامت الزام، جھڑک، تکلیف دہ ملامت۔

وَبَّخَ ہ علی: پر کو سرزنش کرنا، ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھاڑ چھپاڑ کرنا، ملامت کرنا، الزام لگانا، پر کی مذمت کرنا، پر کو جھڑکنا، برا بھلا کہنا، پر کو سخت سست کہنا۔ تَوْبِیخ: ملامت، سرزنش، ڈانٹ، ڈانٹ ڈپٹ، جھاڑ جھپاڑ، الزام، ملامت، زجر وتوبیخ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وبد: اوَبِدَ يَوْبَدُ وَبَدًا: بدحال اور کم مال والا ہونا
صفت وَبِد ـــ الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا ـــ
النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا ـــ عليه: پر غضبناک
ہونا ـ اَوْبَدَ اِيْبَادًا ہٗ: کو جدا کرنا ـ تَوَبَّدَ اُمورَ الهُم: نظر لگانے کے لئے مال کو متعین کرنا ـ الوَبَد (مص):
بدحالی، تنگ زندگی (کہا جاتا ہے فلانٌ فی وَبَدٍ:
فلاں شخص بدحال ہے ـ رجُلٌ وَبَدٌ: بدحال ـ (واحد
جمع) کبھی اَوْبَاد جمع لاتے ہیں ـ) گرمی، عیب ـ
الوَبِد: بھوکا ـــ و المُتَوَبِّد: بہت تیز نظر بد لگانے
والا ـ قومٌ اَوْبَادٌ: کنگال لوگ ـ المُستَوبِد: بدحال،
کسی جگہ سے ناواقف ـ
٢ ـ الوَبْدُ و الوَبَد: پہاڑ کا گڑھا ـ

وبر: اوَبَرَ يَبِرُ وَبْرًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا ـ
وَبِرَ يَوْبَرُ وَبَرًا و اَوْبَرَ اِيْبَارًا: بہت پشم والا ہونا ـ
صفت وَبِر و اَوْبَر مونث وَبِرَة و وَبْرَاء ـ
وَبَّرَ: پشم دار ہونا ـــ ت الأرنبُ: ہرن کا اپنی
ٹانگوں کے پشم پر چلنا تاکہ تعاقب نہ کیا جاسکے ـــ
الثعلبُ: لومڑی کا نشان چھپانے کے لئے سخت زمین
پر چلنا ـــ عليه الامرَ: پر معاملہ پوشیدہ رکھنا ـــ
الرجلُ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا ـــ فلانٌ:
بھاگنا، متوحش ہونا، تنہا زندگی بسر کرنا ـ الوَابِر: فا ـ
کہا جاتا ہے: ما بالدار وابِرٌ: گھر میں کوئی نہیں ـ
الوَبْر جمع وُبُور و وِبَار و وِبَارَة (ح): چھوٹا
جنگلی خرگوش، سردی کے آخری سات دنوں میں سے
ایک دن ـ الوَبْرَة (ح): چھوٹے جنگلی خرگوش کی
مادہ ـ الوَبَر (مص) اَوْبَار: اونٹ اور خرگوش کے
بال ـ اَهْلُ الوَبَر: دیہاتی لوگ، بدو لوگ ـ کہا جاتا
ہے: اَخَذَ الشیءَ بِوَبَرِه: اس نے سب چیز لے
لی ـ الوَبَرَة: وَبَر کا واحد ـ بناتُ الأَوْبَر و بناتُ
اَوْبَر (ن): ایک قسم کی بدمزہ سانپ کی چھتری ـ کہا
جاتا ہے: لقيتُ منه بناتِ اَوْبَر: میں نے اس سے
مصیبت پائی ـ
٢ ـ وَبَّرَتِ النخلةُ: کھجور کے درخت میں گابھا دینا ـ
٣ ـ الوَابُور (بعض اسے بَابُور کہتے ہیں) جمع
بَوَابير: دخانی کشتی یا جہاز (اٹلی یا فرانس کا لفظ) ـ
۞ وَبِرَ يَوْبَرُ وَبَرًا: بہت بالوں یا اون والا ہونا، گھنے
بالوں سے ڈھکا ہونا، بالوں سے بھرا ہونا، روئیں دار
ہونا، ریشم دار ہونا ـ وَبَر جمع اوبار: بال، اونٹوں
اور بکریوں کی پشم، پوستین ـ اهلُ الوَبَر: بدو لوگ
(اس کے مقابل اهلُ المَدَر: شہری لوگ) ـ وَبِر:
بالوں سے ڈھکا ہوا، بال دار، روئیں دار، ریشم دار ـ
اَوْبَر مونث وَبْرَاء: بالوں سے ڈھکا ہوا، بال دار،
روئیں دار، پشم دار ـ مُوَبَّر: بال دار، روئیں دار،
اونی، پشمی ـ

وبش: اوَبِشَ يَوْبَشُ وَبَشًا الظفرُ او جلدُ
البعير: ناخن یا اونٹ کی کھال کا سفید داغ والا ہونا ـ
صفت وَبِش ـ وَبَّشَ تَوْبِيشًا الجمرُ: چنگاری
کا سلگنا ـــ ت الأظفارُ: ناخنوں کا سفید داغ والا
ہونا ـــ القومُ في امرٍ: میں ہر طرف سے بھیڑ کر
کے آنا ـــ للحرب: لڑائی کے لئے مختلف قبائل سے
لوگوں کو جمع کرنا ـ اَوْبَشَ تِ الارضُ: زمین کا مخلوط
پودوں والی ہونا ـ الوَبْش و الوَبَش: اونٹ کی جلد
پر کھجلی کے داغ، ناخن کے سفید داغ ـ اَوْبَاش کا واحد:
کمینے لوگوں میں سے ایک ـ وَبَشُ الكلام: ردی
کلام ـ کہا جاتا ہے: ما بهذه الارض الا اَوْبَاشٌ
من شجر او نبات: اس زمین میں تھوڑے سے
بکھرے ہوئے اور متفرق درخت یا پودے ہیں ـ
٢ ـ اَوْبَشَ: جلدی کرنا ـ
۞ وَبْش: نکمی چیز، ردی چیز، الابلا، درخت کی کتری ہوئی
شاخیں، کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک، آخور، بیہودہ
گفتگو، واہیات جمع اَوْبَاش: رذیلوں کی ٹولی، تیل تنبولی،
نیچ ذات کے لوگ ـ

وبص: اوَبَصَ يَبِصُ وَبْصًا و وَبِيصًا و وَبِصَةً:
چمکنا ـ صفت وَابِص ـــ الجروُ: پلے کا آنکھیں
کھولنا ـــ تِ الارضُ: زمین کا بہت نباتات والی
ہونا، زمین کی نباتات کا اُگنا ـ وَبُصَ يَوْبُصُ
وَبَاصَةً: چست ہونا صفت وَبِص ـ وَبَّصَ
الجروُ: پلے کا اچھی طرح آنکھیں کھولنا ـ اَوْبَصَ
تِ النارُ: آگ کا روشن ہونا، آگ کا شعلہ اٹھنا ـــ
تِ الارضُ: زمین کا بہت نباتات والی ہونا، زمین کی
نباتات کا اگنا ـ اَبْيَضُ وَابِصٌ: سفید چمکدار ـ
الوَابِصَة: چمک، کوند ـ کہا جاتا ہے: ما في النار
وابصةٌ: آگ میں چنگاری نہیں ـــ و الوَبِيصة:
آگ ـ الوَبَّاص: چاند، بہت چمکدار رنگ والا ـ
عارضٌ وَبَّاصٌ: بہت بجلی چمکانے والا بادل ـ
٢ ـ وَبَّصَ لهُ بيسير: کو تھوڑا دینا ـ

وبط: وَبَطَ يَبِطُ وَبْطًا الجرحَ: زخم کھولنا ـــ الرجلَ:
کی قدر گھٹانا ـــ فلانًا عن حاجته: کو اس کی
حاجت سے روک دینا ـــ وَبْطًا و وَبَطَ يَوْبَطُ و
وَبُطَ يَوْبطُ وَبْطًا و وَبَطًا و وُبُوطًا و وَبَاطَةً:
کمزور ہونا، خسیس ہونا یا بزدل ہونا ـ اَوْبَطَہٗ: کو
کمزور کرنا، معذور کرنا، بیکار کردینا، اپاہج بنادینا، لولا
لنگڑا کردینا ـ الوَابِط: خسیس، کمزور، بزدل، اترنے
والا، گرنے والا ـ الوُبَاط: کمزوری ـ

وبق: اوَبَقَ يَبِقُ و وَبِقَ يَبِقُ وَبْقًا و وَبِقَ يَوْبَقُ
وَبَقًا و وُبُوقًا و مَوْبِقًا و اِسْتَوْبَقَ: ہلاک ہونا ـ
صفت وَبِق اَوْبَقَ اِيْبَاقًا ہٗ: کو ہلاک کرنا ـ
المَوْبِق: ہلاکت کی جگہ، وعدہ کی جگہ ـ کہا جاتا ہے:
فلانٌ يركبُ المُوبقاتِ: فلاں شخص مہلک گناہ کرتا
ہے ـ وَيَفْعَلُ المُوبِقاتِ: گناہ کرتا ہے، معاصی کا
مرتکب ہوتا ہے ـ
٢ ـ اَوْبَقَ اِيْبَاقًا ہٗ: کو ذلیل کرنا، مطیع کرنا، قید کرنا ـ
المَوْبِق: دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی
چیز، قید خانہ ـ
۞ وَبَقَ يَبِقُ و وَبِقَ يَوْبَقُ وَبَقًا و وُبوقًا و مَوْبِقًا:
ہلاک ہونا، تباہ ہونا، برباد ہونا ـ اَوْبَقَ ہٗ: کو تباہ کرنا،
ذلیل کرنا، کے جذبات کو ٹھیس لگانا یا مجروح کرنا ـ
مَوْبِق: تباہی و بربادی کی جگہ، جیل، قید خانہ ـ مُوْبِقَة
جمع مُوْبِقَات: سخت جرم، جرم اور تشدد کا عمل،
مہلک یا جان لیوا گناہ ـ

وبل: وَبَلَ يَبِلُ وَبْلًا فلانًا بالعصا: کو لاٹھی سے لگاتار
مارنا ـــ الصيدَ: شکار کا سخت تعاقب کرنا ـــ تِ
السماءُ: آسمان کا بہت بارش برسانا ـ وَبُلَ يَوْبُلُ
وَبَلًا و وَبَالًا و وُبُولًا و وَبَالَةً الشیءُ: سخت
ہونا ـــ المكانُ: جگہ کا مضر صحت ہونا ـ وَابَلَ
مُوَابَلَةً ہٗ: (کسی کام) کو کرتے رہنا، جاری رکھنا ـ
اِسْتَوْبَلَ اِسْتِيبَالًا المكانَ: جگہ کو مضر صحت پانا ـــ
تِ الإبلُ: اونٹوں کا چراگاہ کے مضر صحت ہونے کی
وجہ سے کمزور ہوجانا ـ الوَابِل: بہت بارش، اولہ،
ژالہ، بوچھاڑ ـ الوَابِلَة: وابل کا مونث، بازو یا ران
کا اوپر کا حصہ ـ الوَبْل: بہت بارش، اولہ، ژالہ،
بوچھاڑ ـ الوَبَلَة و الأُبْلَة: آب و ہوا کی خرابی،
بدہضمی، بوجھ، سختی ـ کہا جاتا ہے: اَخَذَتْهُ وَبَلَةُ الطعام
او ابلة الطعام: اس کو بدہضمی ہوگئی ـ الوَبَال
(مص): سختی، آب و ہوا کی ناموافقت، برا انجام ـ
الوَبِيل: ناقوس بجانے کی لکڑی، دھیلی کی موگری،
سخت، نرم شاخ ـ مَرعَی وَبِيل: مضر صحت چراگاہ ـ
طعامٌ وَبِيلٌ: وہ کھانا جس کے ضرر کا اندیشہ ہو ـ کہا
جاتا ہے: اَبِيلٌ عَلَی وَبِيلٍ: لاٹھی سے سہارا لینے والا
بوڑھا ـــ و الوَبِيلة و المَوْبِل: موٹی لاٹھی، لکڑیوں
کا گٹھا ـ المِيبَل: موٹی لاٹھی، ڈنڈا، لکڑیوں کا گٹھا ـ
المَبِيل و المَبِيلَة جمع مَوَابِل: کوڑا، اونٹوں کو
مارنے کی چمڑے کی پٹی جو لکڑی کے سرے پر بندھی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہوتی ہے۔

○ وَبَلَ يَوْبُلُ و بَالاً و وَبَلاً و وبالةً و وُبُولاً: موسم یا آب وہوا کا یا ہوا کا مضر صحت ہونا، ناخوشگوار یا نقصان دہ ہونا۔ وَبَال: موسم، ہوا، آب وہوا کی ناموافقت، غیر صحت بخشی، کسی کام کا برا انجام، نقصان، برائی، لعنت۔ وَبِيل: غیر صحت بخش، مضر صحت، ناگوار (آب و ہوا، خوراک) برے انجام والا، نقصان دہ، ضرر رساں، منحوس، مصیبت بھرا، مصیبت انگیز۔ وَابِل: تیز بارش، (مجازاً) بوچھاڑ، ژالہ، اولہ۔ أُمْطِرَهُ وَابِلاً من الرصاص: پر گولیوں کی بوچھاڑ کرنا۔ أَمْطَرَ عَلَيه وَابِلاً من الشَّتْم: پر گالیوں کی بوچھاڑ کرنا۔

وبن: کہا جاتا ہے: ما بالدار وَابِنٌ: گھر میں کوئی نہیں۔ الوَبْنَة: اذیت، بھوک۔

وبه: وَبَهَ و وَبِهَ يَوْبَهُ وَبْهًا و وَبَهًا و وُبُوهًا و أَوْبَهَ إِيْبَاهًا لفلان و بِهِ: پر التفات کرنا، دھیان کرنا، توجہ کرنا، کا لحاظ کرنا، کی پرواہ کرنا، کا خیال کرنا، کی طرف توجہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا يُوبَهُ به او لَهُ: فلاں کی پروا نہیں کی جاتی۔

وتأ: وَتَأَ يَتَأُ وَتْأً في مشيته: سست رفتار سے چلنا۔ وَاتَأَ مُوَاتَأَةً و وِتَاءَةً على الأمر: کسی کام میں موافقت کرنا، کا کہا ماننا، فرمانبرداری کرنا۔

وتح: وَتَحَ يَتِحُ وَتْحًا و تِحَةً العطاءَ: بخشش کو کم کرنا۔ ○ وَتُحَ يَوْتُحُ وَتَاحَةً و وَتْحَةً و وُتُوحَةً العطاءُ: بخشش کا کم ہونا۔ وَتَّحَ تَوْتِيحًا العطاءَ: بخشش کو کم کرنا۔ أَوْتَحَ إِيتَاحًا العطاءَ: بخشش کو کم کرنا۔ ـــ الرجُلُ: آفت پڑنے پر کم مال والا ہونا۔ ـــ فلانًا: کو رنج و مشقت میں ڈالنا۔ ـــ لَهُ الشيءَ: کے لئے چیز کو کم کرنا۔ تَوَتَّحَ تَوَتُّحًا من الشراب: مشروب یا شراب تھوڑی پینا۔ الوَتْح: کم، ناچیز۔ طعامٌ وَتْحٌ: بے برکت کھانا۔ الوَتِح: کم، تھوڑا، ناچیز۔ رجُلٌ وَتِحٌ: خسیس آدمی۔ کہا جاتا ہے: ما أَغْنَى عنه وَتَحَةً: اس نے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ الوَتِيح: کم، ناچیز۔

وتخ: وَتَخَ يَتِخُ وَتْخًا الرجُلَ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ أَوْتَخَ إِيتَاخًا من فلان: کو انتہائی مشقت کو پہنچانا۔ الوَتْخة: کیچڑ۔ کہا جاتا ہے: ما أَغْنَى عنه وَتْخةً: اس نے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ المَيْتَخة: لاٹھی۔

وتد: وَتَدَ يَتِدُ وَتْدًا و تِدَةً الوتدُ: میخ گڑنا ـــ الوتَدَ: میخ گاڑنا۔ وَتَّدَ الوتدُ: میخ گڑنا ـــ الوتَدَ: میخ گاڑنا ـــ في بيته: گھر میں اقامت کرنا۔ ـــ الزرعُ: نباتات کا پھوٹنا اور مضبوط ہونا۔ کہا جاتا ہے: وَتَّدَ رِجلَهُ في الارض: اس نے اپنے قدم زمین پر جمالئے۔ اَوْتَدَ إِيتَادًا الوتدَ: میخ گاڑنا۔ الواتِد (فا): ثابت گڑا ہوا۔ قرنٌ واتِدٌ: مضبوط سینگ۔ وتدٌ واتِدٌ: مضبوطی سے جما ہوا، گڑا ہوا یا لگا ہوا کیل۔ الوَتْد و الوَتَد جمع أَوْتَاد: کھونٹی، کان کے سامنے کا اٹھا ہوا حصہ۔ أَوْتادُ الارض: پہاڑ۔ أوتادُ البلاد: ملک کے روساء اور بڑے لوگ۔ أوتادُ الفم: دانت۔ الاوتادُ في عرف المسلمين: تیسرے درجہ کے اولیاء جنہیں عُمُد بھی کہا جاتا ہے۔ جن میں سے ہر ایک کے ذمہ چار آسمانوں کا انتظام، دیکھ بھال سمجھی جاتی ہے ان کا مسکن آسمانوں کا مرکز بتایا جاتا ہے۔ الاوتاد الأربعة (فلك): منطقہ بروج کی بارہ منزلوں میں چار بڑی منزلیں جو یہ ہیں: الوتد الطالع (۲) الوتد الغائب (۳) وتد السماء (۴) وتد الارض۔ الوَتِد جمع أَوْتاد: کھونٹی ـــ عند اهل العروض: تین حروف جن میں سے دوسرا یا تیسرا ساکن ہو۔ اگر درمیان کا ساکن ہو جیسے قَوْل میں تو اسے الوتد المفروق کہا جاتا ہے اگر متحرک ہو اور آخری حرف ساکن ہو جیسے عَلَى میں تو یہ الوتد المجموع ہے۔ المِيتَد و المِيتَدة: کھونٹی گاڑنے کی لکڑی یا لوہے کی موگری۔

○ وَتَّد ہ: میں کھونٹی، کیل، میخ، کھونٹا چوب، گاڑنا، مضبوطی سے ٹھوکنا، لگانا، کسنا، جکڑنا، مضبوطی سے باندھنا، چمٹانا، جمانا، محفوظ کرنا، بند کرنا، پکڑ رکھنا۔ وَتَد و وَتِد جمع أوتاد: کھونٹا، کھونٹی، کیل، میخ، چوب، پن، خیمہ کی پن، خیمہ کی کھونٹی، چوب، لاٹھی، لٹھ، کھمبا، قطب۔

وتر: ۱۔ وَتَرَ يَتِرُ وَتْرًا و تِرَةً القوسَ: کمان میں تانت لگانا۔ وَتَّرَ القوسَ: کمان کی تانت کسنا۔ أَوْتَرَ إِيتَارًا القوسَ: کمان کے لئے تانت بنانا یا کمان کی تانت کسنا۔ تَوَتَّرَ العصبُ و نحوُهُ: پٹھے وغیرہ کا سخت ہونا۔ تَوَتَّرَتِ العلاقات توترًا: تعلقات کشیدہ ہونا۔ الوَتَر جمع أَوْتَار و وِتَار: وَتَرَة کی جمع، کمان کی تانت، سارنگی کا تار، نس، پٹھا، عضلہ، خط منحنی میں مستقیم کا قطعہ جو منحنی کے دو نقطوں کو باہم ملاتا ہے۔ قائم الزاویہ مثلث میں زاویہ قائم کے مقابل ضلع۔ وتر (chord) (ریاضی اور جومیٹری کی اصطلاح)۔ الوَتَرَة جمع وَتَر و وَتَرَات: لیمپ والا کھمبا، دو انگلیوں کے درمیان کی کھال، کان کے اوپر کے حصہ کی نرم ہڈی، ناک کے بانسے کا [illegible] کمان سے تیر نکلنے کی جگہ۔ الوتيرة: نتھنوں کے درمیان کی دیوار کان کے بالائی حصہ کی نرم ہڈی، دو انگلیوں کے درمیان کی کھال۔ لیمپ والا کھمبا

۲۔ وَتَرَ يَتِرُ وَتْرًا و تِرَةً فلانًا: پر ظلم کرنا یا تکلیف پہنچانا، گھبرا دینا ـــ فلانا مالَهُ او حقَّهُ: کے مال یا حق کو کم کرنا۔ الوَتْر و الوِتْر جمع أوتار: بدلہ لینا یا بدلہ لینے میں ظلم کرنا۔ الوَتِيرَة: انتقام یا انتقام میں ظلم۔ المَوْتُور (مفع): مقتول کا وارث جو بدلہ نہ لے سکے۔

۳۔ وَتَرَ يَتِرُ وَتْرًا و تِرَةً القومَ: کو علیحدہ کرنا، تنہا کرنا۔ وَاتَرَ وِتَارًا و مُوَاتَرَةً الأشياءَ: کو وقفہ چھوڑ کر کرنا، پورا کرنا یا مکمل کرنا، انجام دینا۔ البندقية المواتِرة: بندوق یا رائفل جسے ایک ہی بار بھر کر کئی فائر کئے جا سکیں ـــ الكُتُبَ: خطوط پے درپے بھیجنا ـــ الصومَ: ایک یا دو دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ أَوْتَرَ إِيتَارًا الشيءَ: چیز کو وتر بنانا یعنی ایک بنانا ـــ بين الاشياء: کو ہر دو کے درمیان وقفہ چھوڑ کر جاری رکھنا۔ یہ وتر سے شروع کرنا یعنی طاق عدد سے شروع کرنا ہے۔ تَوَاتَرت الأشياء: چیزوں کا وقفہ کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ہونا۔ الوَتْر و الوِتر جمع أوتار: طاق (عدد)۔ الوَتِيرَة: وقفہ، دہائی، آہستگی، طریقہ تاخیر، قید، قبر۔ تَتْرَى: (اس کی اصل وَتْرَى ہے): ایک کے بعد ایک یا ایک ایک کر کے آنا۔ جیسے ہے: أرسلنا رُسُلَنا تَتْرَى: ہم نے اپنے رسول ایک کے بعد ایک یا ایک ایک کر کے بھیجے)۔

۴۔ الوَتَرَة جمع وَتَر و وَتَرات: ہر چیز کا کنارا اور چکر، ہر چیز کا خالص حصہ، ناک کے بانسہ اور مونچھ کے درمیان کا حصہ۔ الوَتِيرَة: گھوڑے کی پیشانی کا گول سفید نشان، ہونٹ کا حلقہ، دائرہ جس پر نیزہ کا استعمال سیکھا جاتا ہے، سفید زمین، گلاب کا شگوفہ۔

○ وَتَرَ يَتِرُ وَتْرًا ہ: کمان کو تانت لگانا ـــ ہ: پر ظلم کرنا، کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، دھوکا دینا، جل دینا۔ وَتَّرَ ہ: رسی، تار (سارنگی وغیرہ کی تار) کو پھیلانا، کسنا، مضبوط کرنا، تنا ہوا کرنا۔ وَاتَرَ ہ: کو وقفہ وقفہ سے کرنا۔ أَوْتَرَ ہ: (کمان) کو تانت لگانا۔ تَوَتَّرَ: کشیدہ ہونا، پھیلا ہوا ہونا، تنا ہوا ہونا، کسا ہوا ہونا۔ توترت العلاقاتُ: تعلقات کشیدہ ہوگئے۔ تَوَاتَرَ: لگاتار آنا ہونا، اپنے آپ کو دہرانا، بار بار ہونا۔ وَتْر اور وِتْر: طاق (عدد) اونچا نیچا، ناہموار۔ وِتْرًا: ایک ایک کر کے، علیحدہ علیحدہ، فرداً فرداً۔ وَتْرِي:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ناہموار، طاق (عدد) ضَرَبَ علی الوَترِ الحسّاس: کسی حساس جگہ کے متعلق کچھ کہنا، کسی معاملہ کی تہہ کو پہنچنا۔ وَتَر صَوتِی: صوتی وتر (گلے کا آواز پیدا کرنے والا حصہ)۔ وَتَرِی: تاروالا، تارکا۔ وَتِیرَۃ: انداز، اسلوب، طریقہ، وضع، طور، طریق کار، طرز، طریق، نمر علی ہذہ الوَتِیرَۃ: اس طرح علی وَتِیرَۃٍ واحِدَۃٍ: اسی طرح، یکساں طور پر، ہم آہنگی سے۔ تَتْرَی: ایک دوسرے کے بعد، ایک ایک کر کے، یکے بعد دیگرے، پے در پے۔ تَوَتُّر: کھچاؤ، کشیدگی، کشاکش، تناؤ، حد سے زیادہ بوجھ، حد سے زیادہ کوشش کا نقصان۔ تَوَتُّر الاعصاب: اضطراب، گھبراہٹ، اعصابی تناؤ۔ تَوَتُّر سِیاسِی: سیاسی تناؤ، کشیدگی۔ تَواتُر: تسلسل، تواتر، سلسلہ، تانتا، اعادہ، تکرار، بار بار واقع ہونا، بار بار پیش آنے والا واقعہ، استحکام، استقلال، ثابت قدمی، قرار، استمرار، دوام، ہمیشگی۔ علی تَواتُرٍ: پے در پے، لگاتار، یکے بعد دیگرے، ایک دوسرے کے بعد۔ مُتَوَتِّر: پھیلا ہوا، کشیدہ، تنا ہوا، کشاکش کی حالت میں، سخت، بے لوچ، بے گنجائش، کسا ہوا۔ مُتَواتِر: لگاتار، مسلسل، پے در پے

وتش: الوَتَش: ہر تھوڑی چیز، رذیل لوگ۔

وتغ: اوتَغَ یَوتَغُ وَتَغًا: گنہگار ہونا، دین و دنیا میں ہلاک و تباہ ہونا، دردمند ہونا۔ اَوْتَغَ اِیتاغًا ہ: کو ہلاک کرنا، قید میں ڈالنا، مصیبت میں ڈالنا، ایذا دینا۔ — ہ عند السلطان: کو حاکم کے پاس مضر باتوں کی تلقین کرنا۔ کہا جاتا ہے اَوتَغَ دینَہُ بالاِثمِ: گناہ سے دین خراب کرنا۔ المَوتَغَۃ: ہلاکت۔

۲وَتِغَ یَوتَغُ وَتَغًا: گفتگو میں نا سمجھی کرنا، بدخلق ہونا، بری بات کہنا اور بہت جاہل ہونا، ملامت زدہ ہونا۔ فی حُجَّتِہ: حجت میں غلطی کرنا۔ الوَتِیغَۃ: دلیل کی غلطی۔

وتن: وَتَنَ یَتِنُ وُتُونًا و تِنَۃً الماءُ: پانی کا ہمیشہ بہنا اور نہ رکنا۔ — بالمکان: کسی جگہ جم کر اقامت کرنا۔ — وَتْنًا و وَتِینًا الرجلَ: کی شہ رگ پر مارنا۔ وُتِنَ: کی شہ رگ کا دکھنا۔ واتَنَ مُواتَنَۃً ہ: سے چمٹنا، اس کی طرح کرنا۔ — المکانَ: کسی جگہ میں طویل اقامت کرنا۔ الواتِن (فا) جمع وُتَّن: کسی جگہ جم کر ہمیشہ رہنے والا، مسلسل بہنے والا پانی۔ الوَتْنَۃ: مقروض کا پیچھا کرنا۔ الوَتِین (مص) جمع وُتُن و اَوْتِنَۃ (ع ا): دل کی رگ جس سے تمام رگوں میں خون جاتا ہے۔

۲اِستَوتَنَ المالُ: مویشی کا موٹا ہونا۔

۳المُواتَنَۃ: مخالفت۔

وتین جمع وُتُن و اَوتِنَۃ: رگ جاں، شہ رگ۔

وثا: وَثَأَ یَثَأُ اللحمَ: گوشت کو مردہ کرنا (صدمہ وغیرہ کا)۔ — الوتدَ: کھونٹی کے سر کو ضربوں سے چوڑا کرنا۔ — وَ اَوثَأَ یَدَہُ: کے ہاتھ میں موچ ڈالنا۔ وُثِئَ یُوثَأُ وَثْأً و وَثَأً و وُثُوءًا و وُثِئَتْ یَدُہُ: ہاتھ میں موچ آنا۔ صفت: وَثِئَۃ و مَوثُوءَۃ و وَثِیئَۃ۔ وَثُؤَ یَوثُؤُ وَثَاءَۃً: کو موچ آنا۔ الوَثْء و الوَثْأَۃ: موچ۔ الوَثِیءُ: ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا۔ المِیثَأَۃ: میخ ٹھوکنے کا آلہ۔

واتاہ: (خوشگوار چیز کا) کے پاس آنا، خوشگوار چیز کو اتفاقاً پانا، کے ساتھ خوشگوار چیز کا واقع ہونا، کے ساتھ بااخلاق ہونا، بامروت مدد کرنے والا ہونا، پر مہربان ہونا، کے لئے مبارک، سعود یا نیک شگون والا ہونا، مناسب ہونا، موزوں ہونا، کو رام ہونا، کے لئے کامیابی ہونا، کو زیب دینا، سجنا، پھبنا، کو (خوراک کا) موافق آنا، راس آنا۔ مُواتٍ: خوشگوار، پسند کرنے والا، خوش اطوار مہربان، خوشی کا، خوشی والا، دل کش، دل خوش کن، پسندیدہ، موافق، مناسب حال، مبارک، مسعود، نیک شگون والا۔

وثأ: وَثَأَ یَثَأُ وَثْأً (ہ): (بازو، ٹانگیں) کو رگڑ پہنچانا، زخمی کرنا، پر نجی مار مارنا، مروڑ کر موچ ڈالنا۔ وُثِئَ یَثَأُ وَثَاءً ا و وُثُوءًا و وُثْیًا: رگڑ کھانا، زخمی ہونا، (میں) موچ آنا، موچ زدہ ہونا۔ اُوثِئَ بمعنی وَثَأَ۔ وَثْء و وَثَاءَۃ: نجی مار، پیٹ مار، رگڑ، خراش، موچ۔

وثب: اوثَبَ یَثِبُ وَثْبًا و وُثُوبًا و وَثَبانًا و وِثابًا و وَثِیبًا و ثِبَۃً: اٹھنا، کھڑا ہونا، کودنا، پھاندنا۔ وثب الی الشرف وَثْبًا: وہ شرف و منزلت تک ایک دم جا پہنچا۔ واثَبَ مُواثَبَۃً ہ: پر جلدی سے ٹوٹ پڑنا۔ اَوثَبَ اِیثابًا ہ: کو کدانا۔ اَوثَبَ ہ الموضعَ: کو کسی جگہ سے کدانا۔ تَوَثَّبَ علیہ فی اَرضِہ: کی زمین پر ظلم سے قابض ہو جانا۔ تَواثَبَ القومُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ الوَثّاب: بہت کودنے والا۔ (طب): سردی اور گرمی کی شدت وغیرہ سے پیٹھ کے عضلات کے سوجنے، تشنج اور سردرد کی بیماری۔ عام لوگ اسے وَتّاب (ت سے) کہتے ہیں فَرَسٌ وَثّابَۃ: تیز رفتار گھوڑی۔ الوَثْبَی: بہت کودنے والی۔ کہا جاتا ہے فَرَسٌ او ناقَۃٌ وَثَبَی: بہت کودنے والی گھوڑی یا اونٹنی۔ المِیثَب: کودنے والا، بلند زمین، ندی۔

۲اوثَبَ تَوثِیبًا ہ: کو تکیہ پر بٹھانا، گدی پر بٹھانا۔ — الوِسادۃَ: کے بیٹھنے کے لئے گدی بچھانا۔ — ہ وُثابًا: کے لئے بستر وغیرہ بچھانا۔ المِوثاب: تخت، پلنگ، بستر، بیٹھنے کی جگہ۔ المُوثَبان: امن پسند بادشاہ۔ المِیثَب: بیٹھنے والا، نرم زمین۔

وَثَبَ یَثِبُ وَثْبًا و وُثُوبًا و وَثِیبًا و وَثَبانًا: کودنا، اچھلنا، چھلانگیں لگاتے ہوئے جانا، ایک پاؤں پر کودنا، پھدکنا، کلیلیں کرنا، بھاؤ یا یک چڑھنا، چونک اٹھنا، بدکنا، بھڑکنا۔ — اِلی: کی طرف اٹھ دوڑنا، تیزی سے جانا۔ — علی: پر جھپٹا مارنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا۔ وَثَّبَ و اَوثَبَ ہ/ ہ: کو کودانا، اچھالنا۔ — ہ: کو اچھالنا۔ واثَبَ ہ: پر جھپٹا مارنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا۔ تَوَثَّبَ: یکا یک چڑھنا، چونک اٹھنا، بدکنا، کی طرف تیزی سے جانا، پھدکنا، کلیلیں کرنا، کودنا، چھلانگیں لگانا، اچھلنا۔ — اِلی: کی جگہ وغیرہ شوق و سرگرمی سے جانا، کو ہمت سے کرنا۔ — علی/فی: پر جھپٹا مارنا، ٹوٹ پڑنا۔ — بیدار ہونا، اٹھنا، چڑھنا۔ تَواثَبَ: کودنا، اچھلنا، چھلانگ لگانا، تیز (رفتار) ہونا، سانس کا جلد پھول جانا۔ وثبٌ بالزانۃ: لاٹھی کے ساتھ جست۔ وثبٌ طویل: چوڑی جست۔ وثبٌ عالٍ: اونچی جست۔ تَخَطَّی وَثْبًا من فوق: ٹپ پھاندنا۔ وَثْبَۃ جمع وَثَبات: جست، اچھل، کود، حملہ، دلیرانہ مہم جوئی، انتباہ۔ وثبۃ احساسیۃ: اضطراری تحریک۔ وَثّاب: اچھل کود کا عادی، زقند بھرنے والا، لاف زن، گرم، تیز، پرشوق، سرگرم جوشیلا، تیز مزاج، تندرو، دلیر، من چلا، باہمت، مہم جو، بہادر، جری۔ مُواثَبَۃ: گواہوں کی موجودگی میں مطالبہ کا فوری برزور اظہار (اسلامی قانون)۔ مُتَوَثِّب: بیدار، توانا، طاقت ور، باہمت، سرگرم، چاق چوبند، زوردار، جاندار۔

وثج: وَثُجَ یَوثُجُ وَثَاجَۃً: گاڑھا ہونا۔ — الفرسُ: گھوڑے کا موٹا ہونا۔ — المکانُ: کسی جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ صفت: وَثِیج۔ اَوثَجَ اِیثاجًا ہ: کو زیادہ کرنا۔ اِستَوثَجَ المالُ: مال کا بہت ہونا۔ — من المال: مال زیادہ لینا۔ — الفرسُ: گھوڑے کا موٹا ہونا، گٹھے بدن والا ہونا۔ — النبتُ: نباتات کا گھنا اور گنجان ہونا۔ الوَثِیج: گاڑھا، گٹھے بدن کا، کلوب۔ وثیجٌ: گف بنا ہوا کپڑا۔ الوَثِیجَۃ: بہت درختوں والی زمین، گنجان درختوں والی زمین۔ لوحٌ مُوثَّجَۃ و مُتَّثِجَۃ: بہت گھاس والی زمین۔ المَوثُوج من الثیاب: نرم بناوٹ کا کپڑا۔

وثخ: الوَثِخَۃ: پانی کی تری۔ الوَثِیخَۃ: گاڑھا دودھ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چربی دار نرم ہڈی، سر سبز گنجان گھاس، کیچڑ والی زمین۔ رجلٌ مُوَثَّخُ الخَلق و مَوْثُوخُه: کمزور جسم والا مرد۔

وثر: وَثَرَ يَثِرُ وَثْرًا و وَثَّرَ الفراشَ: بستر کو نرم و ملائم کرنا وَثُرَ يَوْثُرُ وَثَارَةً الفراشُ: بستر کا نرم و ملائم ہونا۔ صفت وَثِير ۔ الرجُلُ: آدمی کا موٹا ہونا۔ ۔ لَحْمُهُ: کا پُر گوشت ہونا استَوْثَرَ الفراشَ: بستر کو نرم و ملائم پانا ۔ من المال: مال بہت مانگنا، لینا المُوَاثِر (فا): ثابت قدم المِوْثَر (مص): تسمہ کی طرح لمبائی میں کاٹا ہوا چمڑا، صدری کے مانند چمڑے کا لباس المِوْثَر: سب کپڑوں سے اوپر رہنے والا کپڑا، نرم، گھوڑے کی زین پر ڈالنے کا گدیلا۔ الوَثِر: نرم و ملائم الوَثِير: نرم و ملائم، بمعنی وَثْر۔ الوَثِيرة جمع وَثَائِر و وِثَار: وثیر کا مؤنث۔ پُر گوشت، بہت گوشت والی الوِثَار: نرم بچھونا۔ الوَثَارَة و الوِثَارَة: بستر یا فرش کی نرمی وَثُرَ کے دو اسم (نرمی، ملائمت) المِيثَرَة جمع مَوَاثِر و مَيَاثِر: گھوڑے کی زین پر ڈالنے کا گدیلا المَوَاثِر و المَيَاثِر: ریشم و دیباج کے جھول، زین پوش، درندوں کی کھالیں۔

وَثِر و وَثِير: نرم، آرام دہ، گرم (بستر، نشست) صاف، ہموار (کپڑا) وِثَار: نرم بستر مِيثَرة جمع مَوَاثِر و مَيَاثِر: کاٹھی کا کپڑا، زین کا کپڑا، زین پوش کمبل۔

وثغ: وَثَغَ يَثِغُ وَثْغًا رأسَهُ: کا سر توڑنا۔ کچلنا الوَثْغة من المطر: تھوڑی بارش الوَثِيغة: موسم بہار کی گنجان گھاس۔ من المطر: تھوڑی بارش۔

وثف: وَثَفَ يَثِفُ وَثْفًا و وَثَّفَ و أَوْثَفَ القِدرَ: ہانڈی کے لئے چولہا بنانا۔

وثق: وَثِقَ يَثِقُ ثِقَةً و وُثُوقًا و مَوْثِقًا بفلان: کا اعتبار کرنا، پر بھروسہ کرنا۔ صفت فاعلی وَاثِق۔ صفت مفعولی مَوْثُوقٌ بِه۔ وَثُقَ يَوْثُقُ وَثَاقَةً الرجُلُ: اپنے معاملہ سے اعتماد سے آگے بڑھنا، کاروائی کرنا۔ ۔ الشيءُ: قوی ہونا، مستحکم ہونا وَثَّقَ الرجُلَ: کو معتبر کہنا، معتبر جاننا ۔ الأمرَ: کو پختہ کرنا وَاثَقَ وِثَاقًا و مُوَاثَقَةً ہُ: سے معاہدہ کرنا أَوْثَقَ إيثاقًا ہُ: کو رسی سے باندھنا تَوَثَّقَ: مستحکم و قوی ہونا ۔ في الأمر: میں اعتماد سے آگے بڑھنا، کاروائی کرنا تَوَاثَقَ القومُ: باہم عہد و پیمان کرنا اِسْتَوْثَقَ منه: سے وثیقہ لینا ۔ من الأموال: مال کی حفاظت میں سختی کرنا الثِّقة (مص): قابل اعتماد، قابل بھروسہ

(واحد جمع مذکر و مونث میں یکساں) بعض اوقات جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جو مذکر و مؤنث کے لئے ثقات ہے۔ کہا جاتا ہے فلانٌ أَخُو ثِقَةٍ: فلاں بہادر ہے الوَثَاق و الوِثَاق جمع وُثُق: باندھنے کی چیز، رسی، بیڑی وغیرہ الوَثَاقِيَة (ن): ایک درخت جس کو آرائش اور باڑھ کے لئے اگایا جاتا ہے، اس کے سفید پھول گچھوں کی صورت میں لٹکتے ہیں۔ الوَثِيق جمع وِثَاق: مضبوط الوَثِيقة: قابل اعتماد (چیز وغیرہ)، وثیق کا مؤنث، کام کی مضبوطی۔ أرضٌ وَثِيقَة: بہت گھاس والی زمین الأَوْثَق مؤنث وُثْقَى: اسم تفضیل، زیادہ مضبوط، زیادہ مستحکم، زیادہ قوی۔ کہا جاتا ہے استمسك بالعروة الوُثْقَى: وہ ایک مضبوط رشتہ سے وابستہ رہا خُذِ الأمر بالأوثق: معاملہ کو انتہائی مضبوط طریقے سے لے المَوْثِق و المِيثَاق جمع مَوَاثِق و مَيَاثِق و مَوَاثِيق و مَيَاثِيق: عہد۔

وَثَقَ يثِق ثِقَةً و وُثُوقًا ب: پر اعتماد کرنا، یقین کرنا، بھروسہ کرنا، انحصار کرنا، اعتبار کرنا، یقین کرنا ۔ من أن: یقین کرنا کہ ۔ ب: پر اعتماد یا یقین ہونا ۔ من أن: یقین رکھنا کہ يُوثَقُ به: بھروسہ کے قابل، قابل اعتبار، لائق اعتماد، معتبر وَثِق من النفس: خود اعتمادی رکھنا وَثُق يَوْثُقُ وَثَاقَةً: مضبوط ہونا، ٹھوس ہونا، قوی ہونا ۔ من: کا یقین رکھنے والا ہونا، کے بارے میں غیر متذبذب ہونا، شک نہ رکھنا، پُر یقین ہونا وَثَّقَ ہ: کو مضبوط کرنا، ٹھوس کرنا یا بنانا، پختہ کرنا، مستحکم کرنا، استوار کرنا، جمانا؛ کی سند میں پیش کرنا، کا دستاویزی ثبوت مہیا کرنا، کی تصدیق کرنا، احقاق حق کرنا، توثیق کرنا، پر وثیقہ تیار کرنا ۔ بین ۔ و بین: کو ۔ سے جوڑنا، کو ۔ سے منسلک کرنا وَاثَقَ ہ: سے معاہدہ کرنا وَاثَقَ نفسَهُ على: کا عزم صمیم کرنا، کو کرنے پر پورا مائل ہونا أَوْثَقَ ہ ب: کو ۔ سے باندھنا، کو ۔ سے بیڑیاں ڈالنا تَوَثَّقَ: مضبوط ہونا، مستحکم ہونا، مضبوطی سے قائم ہونا، مستقل بنیادوں پر استوار ہونا ۔ في: میں اعتماد سے آگے بڑھنا، کارروائی کرنا اِسْتَوْثَقَ مِن: کے بارے میں اپنی تسلی کرنا، کا پورا بندوبست کرنا، کے بارے میں یقین حاصل کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا، کا جائزہ لینا، کی تصدیق کرنا ۔ ہُ: پر اعتماد ہونا، بھروسہ ہونا، پر اعتماد کرنا، یقین کرنا ثِقَة: بھروسہ، اعتماد، اعتبار، حسن ظن، راز کی بات، یقین، ایمان على ثقة من: پر ۔ بھروسہ، اعتماد کرتے ہوئے، کے بارے میں

حسن ظن رکھتے ہوئے، پر اعتماد یا یقین رکھنے والا، کے بارے میں پر یقین، کے بارے میں غیر متذبذب، شک نہ رکھنے والا هو على ثقة من أنَّهُ: اسے یقین ہے کہ وہ ثقةٌ بالنصر: فتح کا یقین ثقةٌ بنفسه یا ثقةٌ بالنفس: خود اعتمادی أخو ثقةٍ: قابل اعتبار، لائق اعتماد، بھروسے کا عدمُ الثقة: عدم اعتماد، بے اعتمادی، شک و شبہ طلب عدم الثقة: تحریک عدم اعتماد (پارلیمنٹری) ثِقَة جمع ثِقَات: بھروسہ کا، قابل اعتماد، لائق اعتبار، معتبر (شخص) اطلاع دینے والا، بتانے والا، خبر دینے والا، معتبر ماخذ، منبع، سرچشمہ یا حاکم (جمع حکام) ارباب اختیار، بااختیار لوگ ثقةٌ عسكرية: فوجی ماہر وَثَاق و وِثَاق جمع وُثُق: رسی یا گانٹھ، زنجیر، کڑی، بندھن، بند، بیڑی، قید، ہتھکڑی (مجازاً بھی استعمال ہوتا ہے) شَدَّ وِثاقَهُ: کو باندھ لینا، کو بیڑیاں یا ہتھکڑی پہنانا وَثاقَة: مضبوطی، استحکام، قوت، طاقت، استواری۔ وَثِيق جمع وِثَاق: مضبوط، قوی، ٹھوس، محفوظ، قابل اعتماد، لائق اعتبار وَثِيقَة جمع وَثائِق: دستاویز، کاغذ، ریکارڈ، ووچر، سرٹیفکیٹ، رسید، پالیسی، ڈپلومیٹک نوٹ، نوشتہ، لکھی ہوئی چیز الوثيقة العُظْمَى: میگنا کارٹا (انسانی حقوق اور آزادی کا منشور جو جان نے ۱۹۱۵ء میں جاری کیا) وَثِيقة التفويض: پیروی مقدمہ کی تحریری اجازت (warrant of attorney) أَوْثَق مؤنث وُثْقَى: زیادہ مضبوط، زیادہ قوی مَوْثِق جمع مَوَاثِق: معاہدہ، ٹھیکہ، عہد و پیمان، قول و قرار، اقرار نامہ، میثاق بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، صلح نامہ، عہد نامہ مِيثَاق جمع مَوَاثِيق: میثاق بنی اسرائیل، معاہدہ، ٹھیکہ، عہد نامہ، صلح نامہ، اقرار نامہ، عہد و پیمان، قول و قرار، رشتہ داری، فرمان، پروانہ، منشور ميثاق هيئة الأمم المتحدة: اقوام متحدہ کا منشور ميثاق عدم الاعتداء: عدم جارحیت کا معاہدہ توثيق الديون: قرضوں کا ادغام مُوَثِّقة: ضمانت؛ کفالت، ضمانت نامہ، کفالت نامہ وَاثِق: بھروسہ کرنے والا، اعتماد کرنے والا، اعتبار کرنے والا، پر یقین مَوْثُوقٌ بِه: قابل اعتماد، لائق اعتبار مصدر موثوق به: ایک قابل اعتماد ذریعہ سے۔ مُوَثِّق جمع مُوَثِّقُون: وثیقہ نویس، ناظر رجسٹری (notary public)۔

وثل: وَثَّلَ المالَ: مال جمع کرنا ۔ الشيء: چیز کو مضبوط کرنا الوَثَل: کھجور کے ریشوں کی رسی، چمڑے کا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

میل کچیل۔الوَثِیل: کھجور کا ریشہ، کھجور کے ریشوں یا سن کی ایک قسم کی رسی۔

○ وَثَل و وِثِیل: کھجور کے ریشوں کی رسی، منیلا کی رسی، سن کے ریشہ کی رسی۔

وثم: وَثَمَ یَثِمُ وَثْماً الشیءَ: چیز کو توڑنا، کوٹنا۔۔۔ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین پر زور سے برسنا۔۔۔ الفرسُ الارضَ: گھوڑے کا زمین پر کھر مارنا۔۔۔ وَثْماً و وِثَاماً تِ الحجارةُ رِجلَهُ: پتھر کا پاؤں کو خون آلود کرنا۔وَثِمَ یَوْثَمُ وَثَماً المکانُ: جگہ کا کم گھاس یا نباتات والی ہونا۔وَثُمَ یَوْثُمُ وَثَامَةً: پر گوشت اور گٹھیلے بدن کا ہونا صفت: وَثِیم۔ وَاثَمَ مُوَاثَمَةً فی العَدْوِ: دوڑنا، آگے بڑھنا۔الوَثَم: کم نباتات۔الوَثِیمَة: پتھر، چقماق کا پتھر، گھاس یا نباتات کا ڈھیر۔خُفٌّ مِیثَمٌ: بہت پامال کرنے والا کھر۔

وثن: وَثَنَ یَثِنُ وُثُوناً: مہد پر جمے رہنا، قائم رہنا۔ اَوْثَنَ اِیثَاناً ہُ: کو بہت بخشش دینا۔۔۔ من المال: بہت مال لینا۔اِسْتَوْثَنَ اِسْتِیثَاناً الشیءُ: باقی رہنا، مضبوط ہونا۔۔۔ تِ الابلُ: اونٹوں کے بچوں کا ان کے ساتھ پروان چڑھنا۔۔ المالُ: مویشی کا موٹا ہونا۔۔۔ من المال: بہت مال لینا۔الوَاثِن (فا) جمع وُثَّن: قائم وثابت۔الوَثَن جمع اَوْثَان و وُثُن و وُثُن و اُثُن: بت۔الوَثَنِی: بت پرست۔

○ وَثَنِی: بت پرست، مظاہر پرست، تاریک خیال آدمی، غیر اہل کتاب، مشرک، کافر، بت پرستی سے متعلق، بت پرستانہ، مظاہر پرستی سے متعلق۔وَثَنِیَّة: بت پرستی، مظاہر پرستی، تاریک خیالی۔

وثی: وَثِیَ یَوْثَی وَثْیاً تْ یدُهُ: کے ہاتھ میں موچ آجانا صفت: مَوْثِیَّة۔ اَوْثَی اِیثَاءً الرجُلُ: ٹوٹی ہوئی کشتی یا زخمی سواری (جانور) والا ہونا۔الوَثْیُ: موچ۔ الوُثِی: دردیں، تکلیفیں۔المِیثَاءَة: موگری، ہتھوڑا۔

وجّ: وَجَّ یَوُجُّ وَجّاً: جلدی کرنا۔الوَجّ (مص): جلدی (ح): شترمرغ۔(ح): بھٹ تیتر۔

۲۔الوَجّ: جوئے کی لکڑی۔(ك): ایک دوا جو پودوں کی جڑوں سے بنائی جاتی ہے۔عام لوگ اسے بھوک کی جلن کے معنی میں لیتے ہیں۔

وجا: ا۔وَجَأَ یَوْجَأُ وَجْأً و تَوَجَّأَ فلاناً بالسکین او بیده: کو چھری یا ہاتھ سے مارنا۔صفت مفعولی مَوْجُوءٌ و وَجِیءٌ۔ اسم: الوِجَاء۔۔۔ التَمْرَ: کھجور کو کوٹنا۔ اَوْجَأَ فلاناً عنه: کو سے دور کرنا، ہٹانا۔الوَجِیئَة: کوٹ کر تیل یا گھی میں ملا کر کھائی جانے والی کھجور یا ٹڈی۔

۲۔وَجَّأَ تَوْجِیئاً البئرَ: کنوئیں کو اندھا پانا یعنی اسمیں پانی آنا بند ہو گیا ہو۔اَوْجَأَتِ البئرُ: کنوئیں کا پانی منقطع ہوجانا۔۔ الرجُلَ: ناکام ہونا۔الوَجْءُ و الوَجَأ و الوِجَاء: اندھے کنوئیں کی طرح بے فائدہ چیز۔

۳۔اِتَّجَأَ التمرُ: کھجور کا گودے دار ہونا۔

۴۔الوَجِیئَة: (ح) گائے۔

وجب: ا۔وَجَبَ یَجِبُ وُجُوباً و جِبَةً الشیءُ: ثابت ولازم ہونا۔کہا جاتا ہے: وَجَبَ البیعُ و وَجَبَ لی علی فلان کذا: خرید وفروخت لازم ہو گئی، میری اتنی رقم فلاں شخص پر واجب الادا ہوگئی۔۔۔ وَجْبَةً الرجُلُ: دن میں ایک کھانا کھانا۔۔۔ الحائِطُ ونحوُهُ: دیوار وغیرہ کا زمین پر گرجانا۔۔۔ وَجْبا و وُجُوباً الرجُلُ: گر کر مرجانا۔کہا جاتا ہے: ضربهُ فوَجَبَ: (اس نے اسے مارا تو وہ گر کر مرگیا۔)۔تِ الشمسُ: سورج کا ڈوبنا، غروب ہونا۔۔۔ ت العینُ: آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا۔دھنسنا۔۔۔ وَجْباً و وَجِیباً و وجَبَاناً القلبُ: دل دھڑکنا۔وَجُبَ یَوْجُبُ وجُوبَةً: بزدل ہونا۔وَجَّبَ: دن میں ایک کھانا کھانا۔وَجَّبَ نفسَهُ: و لنفسه دن میں ایک کھانا کھانا۔۔۔ الامرَ علیه: کو پر لازم کرنا۔۔۔ الناقةَ: دن رات میں اونٹنی کو صرف ایک بار دوہنا۔۔۔ الضیفَ: مہمان کے حق ضیافت کو ادا کرنا، مہمان کی عزت کرنا (عام زبان میں)۔۔۔ بهِ الارضَ: کو زمین پر گرانا۔۔۔ تِ الأبلُ: اونٹوں کا تھکنا۔۔۔ البعیرُ: اونٹ کا بیٹھنا۔۔۔ اللبأُ فی ضرع الناقة: کھیس کا اونٹنی کے تھن میں جم جانا۔وَاجَبَ وِجَاباً و مُوَاجَبَةً ہُ: کو لازم کرنا۔اَوْجَبَ ایجاباً لفلان حَقَّهُ: کے حق کی نگہبانی کرنا۔کہا جاتا ہے: قد فعلتُ ذلك ایجاباً لحقِّهِ: (میں نے یہ اس کے حق کی خاطر کیا)۔۔ الشیءَ: کو واجب جاننا یا واجب کرنا۔۔ البیعَ: خرید وفروخت لازم کرنا۔۔ الرجُلُ: ایسا کام کرنا جس سے وہ دوزخ یا جنت کا سزاوار ہو جائے۔۔ الرجُلُ: دن میں ایک کھانا کھانا۔۔ اللّٰهُ قلبَهُ: کے دل کو دھڑکانا۔تَوَجَّبَ: دن میں ایک کھانا کھانا۔تَوَاجَبَ القومُ: باہم شرط باندھنا۔اِسْتَوْجَبَ اِستیجاباً الشیءَ: کا حق دار ہونا، کو واجب اور لازم سمجھنا۔الوَاجِب (فا): لازم (جائز، ممکن وممنوع کے مقابل کو بھی کبھی واجب کہا جاتا ہے) مقتول۔واجبُ الوُجود: ضروری ہستی، اپنی ذات میں موجود یا قائم بالذات (خدا)۔الوَجْب (مص) والوَجَّابَة: بزدل۔الوَجَب: گھوڑ دوڑ کی شرط۔الوَجْبَة (مص) جمع وَجَبَات: دھماکے کے ساتھ گرنے یا گرنے والے کی آواز، دن میں ایک بار کا کھانا۔۔۔ عند العامة: کسی چیز کا سیٹ جیسے چمچوں کا سیٹ۔وَجْبَةُ الاسنان: مصنوعی دانت۔الوَجَّاب: بزدل۔قلبٌ وَجَّاب: بہت دھڑکنے والا دل۔الوُجُوب: کپڑا، ذات کے تقاضے کی ضرورت اور خارج میں اس کا حصول۔الوَجِیبة: وظیفہ، بیع کو واجب کرنا۔المُوجِب (فا): باعث، سبب۔المُوجِبَة: بڑی نیکی یا بڑا گناہ جس سے کرنے والا جنت یا دوزخ کا حق دار ہوجائے۔المَوجِب جمع مَوَاجِب: موت۔کہا جاتا ہے: خرج القوم إلی مَوَاجِبهم: لوگ اپنی موت کی طرف نکلے۔المُوجَب (مفع) من الکلام: وہ کلام جس میں نہ نفی ہو نہ نہی نہ استفہام۔

۲۔وَجَبَ یَجِبُ وَجْبًا و وُجُوباً فلاناً عنه: کو سے ہٹانا، باز رکھنا۔

۳۔الوَجْب جمع وِجَاب: چمڑے کی بڑی مشک۔

○ وَجَبَ یَجِبُ وُجُوباً: ضروری ہونا، ناگزیر ہونا، لازمی ہونا، لازم ہونا، واجب ہونا، اٹل، واجبی یا لابدی ہونا۔۔۔ علی: پر واجب ہونا، لازم ہونا، کے ذمہ ہونا، پر عائد ہونا، کے گلے منڈھے ہوئے ہونا، موکد ہونا، حکم کیا گیا ہونا، کا فرض ہونا۔وجب علیه أن: اس کا فرض ہے کہ، اسکو ایسا کرنا ہے، اسکو ایسا کرنا ہوگا۔کما یجب: جیسا کہ ہونا چاہئے، جیسا کہ لازمی ہے۔۔ وجیباً و وَجَبَاناً: (دل کا) دھڑکنا۔ وَجَّبَ ہ علی: کو کا فرض بنانا، کو پر ناگزیر یا لازمی کرنا، کو پر عائد کرنا، کو کے گلے منڈھنا، کو کے ذمے لگانا۔۔۔ علی ہ: کو پر مجبور کرنا، کو کا پابند کرنا۔ اَوْجَبَ ہ علی: کو کا فرض بنانا، کو پر ناگزیر کرنا، کو پر عائد کرنا، کو کا حکم دینا، کو کی تاکید کرنا، کو کے لئے ضروری بنانا، لازمی یا لازم بنانا۔۔ علی ہ: کو پر مجبور کرنا، کو کا پابند کرنا۔۔۔ ہ ل: کا کے حق میں وثوق سے فیصلہ کرنا، کو کوئی چیز انعام دینا، کو کوئی چیز دینا۔ اِسْتَوجَبَ ہ: کا مستحق ہونا، حق دار ہونا، سزاوار ہونا، مستوجب ہونا، کا دعویدار ہونا۔ ہ: کو ضروری یا لازمی سمجھنا۔عملٌ یستوجب الشکر: شکریہ کا مستحق کام، قابل تعریف، قابل انعام، مستحسن یا پسندیدہ کام۔وَجْبَة جمع وَجَبات: کھانا، خوراک، ناشتہ، صبح شام کا کھانا، فہرست طعام (شام میں)۔وجبةُ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الطعام: کھانا، خوراک، صبح شام کا کھانا۔ وجبة ناشفة: خشک راشن، ہنگامی راشن۔ ایجاباً ل: کی تعمیل میں، کے مطابق، کی پیروی میں۔ مَحَلُّ الإیجاب: صاحب اختیار حاکم۔ مَراجِع الایجاب: مجاز حکام۔ رَدَّ (یا أجابَ) بالایجاب: ہاں کہنا، ہاں میں جواب دینا۔ إیجابی: مثبت، ایجابی، قطعی، صریح، عملی (دفاع)۔ إیجابیَة: فلسفہ وجوبیت (جس میں صرف ان چیزوں کو مانا جاتا ہے، جن کا وجود مشاہدہ میں آسکے اور اس کا عینی ثبوت ہو)۔ وَاجِب: ضروری، ناگزیر، لازمی، اٹل، مبرم، عین فطرت کے مطابق، جس سے مفر نہ ہو، لازم، واجب، ادائے فرض کا، اخلاقاً اور قانوناً لازم، مناسب، کافی، اچھا خاصا جمع واجبات و وَجائب: فرض، ذمہ داری، ضرورت، کام، تفویض۔ واجبٌ علیك: یہ تمہارا فرض ہے۔ یَرَی من واجبه: وہ اسے اپنا فرض سمجھتا ہے۔ بالواجب: لازمی طور پر، فرض شناسی سے، حسب ضابطہ، حسب دستور، کما حقہ، جیسا چاہئے، پابندی سے، ٹھیک وقت پر، واجبی طور پر، انصاف کی رو سے۔ واجبُ العرض: درخواست وغیرہ پیش کرنے کے لئے موزوں۔ واجبات منزلیة: گھر پر کرنے کا کام، ہوم ورک۔ مُوجُوب: اخلاقی فرض، ہدایت، فرمان، حکم، ارشاد، قانون۔ مُوجِب: مجبور کرنے والا، پابند کرنے والا، ضروری بنانے والا، لازمی کرنے والا، متقاضی، مائل کن، ترغیب دینے والا، محرک، باعث جمع مُوجبات: سبب، باعث، وجہ، محرک، ضرورت، ہنگامی صورت حال، سلیقہ، تہذیب، ادب آداب یا آداب مجلس کا معاملہ، رسم ورواج کی پابندی، ضابطہ کی کارروائی۔ عَلَی موجبِ یا بموجب: کے مطابق، کی بنا پر، کی وجہ سے، کے باعث، کی سند سے، بسند۔ لا مُوجِبَ لِ: اس کی کوئی وجہ نہیں۔ مُوجِبَة: سبب، وجہ، محرک، ایسا کام جو ناگزیر عواقب کا نتیجہ ہے۔ مُوجَب: ضروری، لازمی، لازم، اثر، نتیجہ، اثباتی (گرامر)، مثبت، اثباتی، قطعی۔ مُوجَبَة: اثباتی جملہ۔ مستوجب: مستحق، سزاوار، لائق، قابل، شایان شان، موزوں، مناسب

وجح: ا۔ وَجَحَ الشیءُ: ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ أَوْجَحَ: ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ ۔۔۔ت النارُ: آگ کا روشن ہونا۔ ۔۔۔ت غُرَّةُ الفرس: گھوڑے کے چہرے پر سفید داغ کا ظاہر ہونا۔

۲۔ أَوْجَحَ البیتَ: پر پردہ گرانا۔ ۔۔۔هُ إلی کذا: کو کسی طرف فرار ہونے پر مجبور کرنا۔ ۔۔۔ البولُ فلاناً: کو پیشاب کا تنگ کرنا۔ ۔۔۔ الحافِرُ: کھودنے والے کا کھودتے کھودتے ہموار پتھر تک پہنچ جانا۔ الوَجَحُ: غار نما، کھوہ نما۔ الوَجَاح: پردہ، ہموار چٹان۔ الوُجاح والوِجاح: پردہ۔ الوَجیح: باریک بنا ہوا کپڑا۔ المُوجَح (مفع): پناہ گاہ، جائے پناہ، باریک بنا ہوا کپڑا، ہموار کھال۔ المَوجُوح من الابواب: بند یا پردہ پڑا ہوا دروازہ۔

وجد: ا۔ وَجَدَ یَجِدُ وَجْداً و وُجْدًا و جِدةً و وُجُودًا و وِجْداناً و إِجْداناً المطلوب: مطلوب کو پالینا، جو پہلے جاچکا تھا۔ کہا جاتا ہے: وجدتُ الضالَّةَ: میں نے کھوئی ہوئی چیز کو پالیا، جاننے کے معنی میں بھی آتا ہے اس صورت میں یہ افعال قلوب میں سے ہوتا ہے اور دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔ اسکا مصدر وجود ہے۔ جیسے: وجدتُ کلامكَ صَادِقاً: میں نے تیری گفتگو کو سچا جانا یا پایا۔ ۔۔۔ وَجْداً و وِجْدًا و وُجْداً و جِدَةً المالَ و نحوَهُ: سے مطمئن ہونا۔ یَجِدُ و یَجُدُ وَجْداً بفلانٍ: سے پر جوش محبت کرنا۔ ۔۔۔ لَهُ: کیلئے غمگین ہونا۔ ۔۔۔ وَجْداً و جِدَةً و مَوجِدَةً و وِجْداناً علیه: پر غضبناک ہونا۔ ۔۔۔ یَوجَدُ وَجْداً به: سے پر جوش محبت کرنا۔ ۔۔۔ له: کے لئے غمگین ہونا۔ وَجِدَ یَجِدُ وَجْداً و وُجْداً و جِدَةً و وُجُوداً و وِجْداناً و إِجْداناً المطلوبَ: مطلوب کو پانا، کا ہاتھ لگنا، کو پڑا پانا، حاصل کرنا۔ وُجِدَ وُجُودًا الشیءُ عن عدمٍ: نیست سے ہست ہونا، موجود ہونا۔ صفت: مَوْجُود۔ أَوْجَدَ ایجاداً اللّٰهُ الشیءَ: اللہ تعالیٰ کا چیز کو پیدا کرنا، وجود میں لانا۔ ۔۔۔ هُ مطلوبَهُ: کو مطلوب دلانا، کو مطلوب حاصل کروانا۔ ۔۔۔ فلاناً: کو قوی کرنا، کو مالا مال کرنا۔ ۔۔۔ علی الأمر: کو پر مجبور کرنا۔ ۔۔۔ هُ الیه: کو کچھ کرنے پر مجبور کرنا۔ تَوَجَّدَ به: سے محبت کرنا۔ ۔۔۔ له: کیلئے غمگین ہونا۔ ۔۔۔ السَهَرَ و نحوَهُ: کو بے خوابی وغیرہ کی شکایت ہونا۔ تَوَاجَدَ: خوشی، محبت یا غم کا دکھاوا کرنا۔ الوَاجِد (فا): امیر، دولت مند، عاشق۔ کہا جاتا ہے: انا واجدٌ لِلشیءِ: میں اس چیز پر قادر ہوں۔ الجِدَة (مص): دولت، تونگری، قدرت، طاقت۔ الوَجْد و الوُجْد و الوِجْد (مصادر): دولت، محبت، خوشی، قدرت۔ کہا جاتا ہے: هذا من وَجْدِی: یہ میری طاقت میں ہے۔ الوَجَّاد: بہت غضبناک۔ الوِجْدان (مص) (فی عرف بعضهم): ضمیر، خیر و شر کا احساس، دل کی گواہی، غم، خوشی کا جذبہ، نفس اور اس کی باطنی قوتیں۔ الوِجدانی جمع وجدانیات: باطنی شعور، فطرتی قوتوں سے بالاتر قوت کی چیز، مافوق الفطرت، وہ باتیں جن کا باطنی قوتوں سے ادراک ہو۔ الوُجُود (مص): ہونا، ہستی، وجود۔ الوُجُودِی: وجودی، نظریہ وجودیت کا پیرو، نظریہ وجودیت سے متعلق، ہستی موجود۔ الوُجُودِیَة: ہونا، ہستی، نظریہ موجودیت کہ انسان پہلے پہل نیم مابعد الطبیعاتی وجود لے کر پیدا ہوا اپنی تخلیق کرتا ہے اور اپنے عمل سے اپنے نفس کا انتخاب کرتا ہے، یعنی کلیۃً آزاد ہے۔

۲۔ الوَجْد جمع وِجَاد: کھڑے پانی کا جوہڑ۔ الوَجِید جمع وُجْدان: ہموار زمین۔

○ وَجَدَ یَجِدُ وُجُودا هٗ: کو پانا، کا ہاتھ لگنا، کو اتفاقاً پانا، سے متعارف ہونا، کو حاصل کرنا۔ ۔۔۔ ه ه: کو بطور کسی چیز کے ایجاد کرنا، کی بطور کسی چیز کے کمی وغیرہ پوری کرلینا؛ کو اچھا، برا پانا۔ وُجِدَ وُجُوداً: پایا جانا ہونا، موجود ہونا۔ یُوجَدُ: ہے، ہیں۔ ۔۔۔ وَجْداً ه: (مشقتوں، مصائب وغیرہ) کا تجربہ کرنا، کو محسوس کرنا، کا احساس ہونا، کا سا محسوس کرنا۔ ۔۔۔: مصیبت میں پڑنا، تکلیف دہ اضطراب کی حالت میں ہونا۔ ۔۔۔ ب: سے محبت کرنا، سے جذباتی ہوجانا، کا شدت سے آرزو مند ہونا، کی آرزو میں گھلنا، کے لئے حسرت و یاس کا انداز اختیار کرنا۔ مَوجِداً علی: پر ناراض ہونا، سے بغض ہونا، سے کینہ رکھنا۔ أَوْجَدَ ه: کو بنانا، وجود میں لانا، کا باعث ہونا، کو ابھارنا، کا باعث بننا، کی صورت پیدا کرنا، کا موجد یا مخترع ہونا، کی تخلیق کرنا، کو حاصل کرنا، انجام دینا، بجالانا، پورا کرنا، کو کرنا، کو ایجاد کرنا۔ ۔۔۔ ه ه: کو کچھ پانے یا حاصل کرنے دینا، کے لئے کچھ حاصل کرنا، کو کچھ مہیا کرنا۔ ۔۔۔ ه علی: کو پر مجبور کرنا۔ تَوَجَّدَ ب: سے پر جوش محبت کرنا۔ ۔۔۔ ل/ب: کے لئے رنجیدہ ہونا۔ تَوَاجَدَ: (کہیں) جانا، آنا، موجود ہونا (کہیں) ہونا، دستیاب ہونا، (جذبہ وغیرہ کا) اظہار کرنا۔ وَجْد: قوی جذبہ، قوی احساس، جذباتی برہمی، پریشانی یا گڑ بڑ، جذبہ، گرمجوشی، سرگرمی، لگن دھن؛ محبت کی خوشی۔ وِجدان: وجد، حال، کیف، جذباتی جوش، جذباتی زندگی، نفسیاتی قوتیں، احساس، جذبہ، جذباتیت۔ وِجْدَانی: جذباتی، نفسیاتی، ذہنی۔ وجود: پانا، دریافت، ہونا، ہستی، عرصہ، موجودگی، اتا پتہ۔ وُجُودی: وجود کا، وجود سے متعلق نظریہ وجودیت سے متعلق۔ الفلسفة الوجودیة: نظریہ وجودیت (existentilism)۔ مَوْجِدَة: احساس، جذبہ، طیش، عشق، بے حد شوق، جوش، بغض، کینہ، برا ماننا، آزردگی، برا ارادہ۔ وَاجِد:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پانے والا، مضطرب، بے چین، ہیجان زدہ، پرجوش، برانگیختہ، مشعل، گھبرایا ہوا، پریشان، برہم (علی کے بارے میں) ـــ ب: کی محبت میں مبتلا مَوجُود: پایا ہوا، دستیاب، موجود، حاضر، زندہ مخلوق، مخلوق، شاک، سنور، سپلائی جمع مَوجُودات: ہر موجود چیز، مخلوق، اثاثہ، املاک سامان مال مُوجِد: خالق، تخلیق کرنے والا، مصنف، موجد، مخترع۔

وجذ: اَوجَذَہُ الی کذا: کو پر مجبور کرنا ـــ ہُ علیہ: کو پر مجبور کرنا الوَجْذ جمع وِجَاذ و وِجْذَان: پہاڑی علاقہ میں گڑھا جہاں پانی کھڑا رہتا ہے، بعض کے نزدیک حوض مَکانٌ وَجِذ: بہت گڑھوں والا علاقہ۔

وجر: وَجَرَ یَجِرُ وَجْراً ہُ: کے منہ میں دوا ڈالنا ـــ فلاناً: کو ناگوار باتیں کہنا وَجِرَ یَوجَرُ وَجَراً من کذا: سے ڈرنا صفت وَجِر و اَوجَر مونث وَجِرَۃ و وَجْراء۔ اَوجَرَ اِیجَاراً ہُ الوَجُورَ: دوا کو کے منہ میں رکھنا ـــ ہُ الرمحَ: کے منہ میں نیزہ مارنا تَوَجَّرَ الماءَ: پانی کو بے دلی سے پینا ـــ الدواءَ: دوا کو تھوڑا تھوڑا کر کے نگلنا اِتَّجَرَ: منہ میں ٹپکانے کی دوا سے علاج کرنا الوَجْر (مص) جمع اَوجَار: غار، کھوہ، مصنوعی غار، غار نما سردخانہ الوَجْرَۃ والوَجَرَۃ جمع اَوجار: درندوں کے شکار کے لئے کھودا ہوا گڑھا الوِجَار و الوَجَارِ جمع اَوجِرَۃ و وُجُر: وادی کا کنارا جسے پانی کے تیز دھارے نے نیچے سے کاٹ ڈالا ہو، لکڑ بگے وغیرہ کا بل الوُجُور و الوَجُور: منہ میں ڈالنے کی یا ٹپکانے کی دواء۔ المِیجَار: گیند کو مارنے کا بلا المِیجَر و المِیجَرَۃ: منہ میں دواء ڈالنے کا آلہ۔

٭ وَجْر جمع اوجار: غار، کھوہ، مصنوعی غار، غار نما سرد خانہ، جنگلی جانوروں کا مسکن، بل، بھٹ، مکان، مسکن، مقام، استھان، گھر، پودے کی اصل زمین۔ وَجَرۃ و وُجْرۃ: دھوکے کی جگہ، جنگلی جانوروں کو پکڑنے کا گڑھا وِجَار جمع اوجِرۃ: (جنگلی جانوروں کی) غار، بھٹ، ماند، بل مِیجَار: بیٹ (bat) بلا، ریکٹ، آٹا گوندھنے کا برتن، پرات، کونڈی۔

وجز: وَجَزَ یَجِزُ وَجْزاً الکلامَ: کلام کو مختصر کرنا ـــ الرجُلُ فی منطقہ: مختصر گفتگو کرنا وَجُزَ یَوجُزُ وَجَازَۃً الکلامُ: کلام کا مختصر اور بلیغ ہونا ـــ وَجْزاً و وَجَازَۃً و وُجُوزاً الرجُلُ فی منطقہ: مختصر گفتگو کرنا اَوجَزَ ایجازاً الکلامَ: کلام کا مختصر ہونا ـــ الکلامَ و فی الکلامِ: کلام کو مختصر کرنا ـــ العطیَّۃَ: عطیہ جلد دینا تَوَجَّزَ الشیءَ: حاجت پوری کرنے کے لئے درخواست کرنا اِستَوجَزَ اِستِیجَازاً الکلامَ: کلام سے زائد باتیں حذف کرنا الوَاجِز: ہلکا اور مختصر ـــ من الکلام: تھوڑا اور جلد سمجھ میں آنے والا کلام الوَجْز (مص): ہلکا اور مختصر ـــ من الکلام: مختصر اور جلد سمجھ میں آنے والا کلام رَجُلٌ وَجْز: پھرتیلا، جلد دینے والا۔ الوجیز: ہلکا، مختصر ـــ من الکلام: تھوڑا جلد سمجھ میں آنے والا کلام المِیجاز: مختصر کلام کرنے کا عادی۔

٭ وَجَزَ یَجِزُ و وَجُزَ یَوجُزُ وَجْزاً و وَجَازَۃً و وُجُوزاً: مختصر ہونا، مختصر اور جامع ہونا، اختصار پسند ہونا، ایجاز پسند ہونا، سرسری ہونا اَوجَزَ: مختصر اور جامع ہونا، اختصار پسند ہونا، ایجاز پسند ہونا ـــ ہ/فی: میں مختصر ہونا، مختصر اور جامع ہونا ـــ ہ: کی تلخیص کرنا، کا خلاصہ لکھنا، کا خلاصہ کرنا، کا اختصار کرنا، کو مختصر کرنا، وَجْز: مختصر اور جامع جامع بات کہنے والا، اختصار پسند، ایجاز پسند، خلاصہ جامع وَجِیز: بمعنی وَجْز۔ بِوَجِیزِ العبارۃ: مختصر طور پر بیان کردہ، چند لفظوں میں، مختصر ترین لفظوں میں، ضروری باتوں تک مختصر اِیجازاً یا بالایجاز: مختصراً، مختصر طور پر۔ وإلیکَھَا بالإیجاز: مختصراً بات ذیل میں پیش ہے۔ مُوجَز: خلاصہ کیا ہوا، مختصر، موجز، جامع، مختصر اور جامع، خلاصہ ماحصل، ملخص (کی) مختصر صورت، خاکہ، (کے) اہم نکات، مختصر بیان، تلخیص۔

وجس: اِوَجَسَ یَجِسُ وَجْساً: پوشیدہ ہونا ـــ تِ الأذنُ: کان کا آہٹ سننا ـــ و ـــ وَجْساً و وَجَسَاناً: سنی ہوئی بات یا دل میں پڑی ہوئی بات کا خوف محسوس کرنا اَوجَسَ اِیجَاساً الرجُلُ: محسوس کرنا، دل میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے اَوجَسَ القلبُ فزعاً: دل نے گھبراہٹ محسوس کی ـــ تِ الأذنُ: کان کا آواز سننا تَوَجَّسَ: آہستہ آواز پر کان لگانا ـــ فزعاً: گھبراہٹ محسوس کرنا ـــ الصوتَ: کو دور سے سننا ـــ تِ الأذنُ: کان کا آواز سننا الوَاجِس (فا): دل میں آنے والا خیال الوَجْس (مص): پوشیدہ آواز، دل کی گھبراہٹ۔

۲۔ تَوَجَّسَ الطعامَ او الشرابَ: تھوڑا تھوڑا کھانا یا پینا الأَوجَس: تھوڑی خورد و نوش کی چیز۔

۳۔ الأَوجَس: زمانہ۔ کہا جاتا ہے: لا افعلہ سَجِیسَ الأَوجَسِ: میں اسے کبھی نہیں کروں گا۔

٭ وَجَسَ یَجِسُ وَجْساً و وَجَسَاناً: تشویش مند ہونا، خوفزدہ ہونا، پریشان ہونا اَوجَسَ ہ: کے اندیشے رکھنا، (آنے والے خطرت کا) احساس کرنا، ماتھا ٹھنکنا، سے خائف ہونا، ڈرنا، دہشت کھانا، کو محسوس کرنا، کا احساس ہونا، سے آگاہ ہونا اَوجَسَ خِیفَۃً: خوف کا احساس کرنا اَوجَسَ فیہ المَلَلَ: محسوس کرنا کہ فلاں شخص اکتا رہا ہے یا بور ہو رہا ہے، کی بوریت، اکتاہٹ یا بیزاری کو محسوس کرنا تَوَجَّسَ: بمعنی اَوجَسَ نیز تَوَجَّسَ ہ: کو تشویش اور پریشانی سے سننا، کو چکھنا، کو کتر کے کھانا، کی چسکی لینا۔ تَوَجَّسَ شَرّاً من: کو برا شگون سمجھنا وَجْس: خوف اندیشہ، پریشانی، بے چینی فکر تَوَجُّس: بودا پن، بزدلی، اندیشہ مندی، فکرمندی وَاجِس: پریشان کن یا بے چین کرنے والا خیال، بدشگونی، بری پیش اندیشی یا پیش آگاہی۔

وجع: اِوَجِعَ یَوجَعُ وَجَعاً: بیمار ہونا، درد میں مبتلا ہونا۔ (مضارع یَیجَعُ یا یَاجَعُ بھی آتا ہے) ـــ فلاناً رأسُہُ و وَجِعَ فلانٌ رأسَہُ: کے سر میں درد ہونا اَوجَعَ اِیجاعاً ہُ: کو دکھ دینا، تکلیف پہنچانا ـــ فی العدوّ: دشمن کا قتل عام کرنا تَوَجَّعَ: شکایت کرنا، غم ظاہر کرنا ـــ لہ: کے لئے نرم ہونا الوَجَع جمع وِجَاع و اَوجاع: مرض، دکھ، تکلیف۔ الوَجِع جمع وَجِعُون و وَجْعَی و وَجَاعَی و وِجَاع و اَوجاع م وَجِعَۃ جمع وَجَاعَی و وَجِعات: دردمند، جسے درد ہو، تکلیف ہو الوَجِیع: درد پہنچانے والا، درد انگیز، دردناک۔ کہا جاتا ہے: ضربٌ وجیعٌ: دردناک مار جیسے کہا جاتا ہے عذابٌ الیمٌ: دردناک عذاب الأَوجَع: بہت تکلیف پہنچانے والا۔ (اسم تفضیل ہے خلاف قاعدہ اَوجَعَ سے بنایا گیا ہے جو مزید فیہ کا صیغہ ہے)۔

۲۔ الجِعَۃ: جو کی نبیذ الوَجْعَاء جمع وَجْعَاوات: دُبُر۔

٭ وَجِعَ یَوجَعُ وَجَعاً: تکلیف یا درد محسوس کرنا، تکلیف میں ہونا ـــ ہ: کو تکلیف پہنچانا اَوجَعَ ہ: کو تکلیف پہنچانا، کو تکلیف پہنچانے کا باعث بننا تَوَجَّعَ: درد میں مبتلا ہونا، تکلیف میں ہونا، اپنی تکلیف کا اظہار کرنا، آہ وزاری کرنا، غم و افسوس کرنا ـــ لِ: کے لئے رنج، افسوس، ترس محسوس کرنا، کے لئے رحم یا خدا ترسی محسوس کرنا، پر ترس کھانا، رحم کھانا، دیا کرنا وَجَع جمع اَوجَاع و وِجَاع: درد، تکلیف، بیماری وَجَع السِنّ: دانت درد الوجعُ بِکَبِدِکَ: لعنت، نفرین (لفظی معنی: خدا کرے تمہارے کلیجے کو درد ہو)۔ وَجِیع: تکلیف دہ، پردرد، غمگین، مہلک، سنگین المناک

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دردانگیز۔ تَوَجُّع: تکلیف درد، رونا چلانا، آہ وزاری، غم وافسوس۔ مُوجوع: تکلیف محسوس کرنے والا، تکلیف میں، دکھی بیمار، تکلیف اٹھانے والا۔

وجف: وَجَفَ يَجِفُ وَجْفًا و وَجِيفًا و وُجُوفًا الشيءُ: مضطرب ہونا۔ ـــ وَجِيفًا القلبُ: دل دھڑکنا صفت: وَجَّاف و واجِف۔ ـــ وَجْفًا و وَجِيفًا الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ صفت: واجِف۔ اَوْجَفَ الفرسَ: گھوڑے کو تیز دوڑانا۔ ـــ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو ہلانا، حرکت دینا، مضطرب کرنا۔ اِسْتَوْجَفَ الحُبُّ فؤادَهُ: محبت کا دل کو چھین لینا۔ الوَجِيف (مص) خوف سے گرنا۔ ناقةٌ مِيجَاف: تیز دوڑنے والی اونٹنی۔

◌ وَجَفَ يَجِفُ وَجْفًا و وُجُوفًا و جِيفًا: برانگیختہ ہونا، پریشان ہونا، ہیجان زدہ ہونا، بے قرار ہونا، بے کل ہونا، جوش میں آنا، مشتعل ہونا۔ ـــ وَجْفًا (دل) دھڑکنا، پھڑکنا۔ اَوْجَفَ ہٗ: کو حرکت میں لانا، میں ہلچل پیدا کرنا، کو برانگیختہ کرنا، اکسانا، بھڑکانا، ہلانا، گھنگھولنا، میں تلاطم پیدا کرنا، کو پریشان کرنا، درہم برہم کرنا، گھبرا دینا، تشویش یا الجھن میں ڈالنا، لرزانا، پر لرزہ طاری کرنا، کو ہلانا، پر کپکپاہٹ طاری کرنا۔ اِسْتَوْجَفَ ہٗ (دل کو) پھڑکانا، بے چین کرنا، مرتعش کرنا۔ واجِف دھڑکنے والا، پھڑکنے والا (دل)۔ فی صوتٍ واجِفٍ مرتعش، لرزاں یا کانپتی ہوئی آواز میں۔

وجق: الوُجَاق و الأُوْجَاق جمع وُجاقات: چولہا، آگ جلانے کی جگہ، فوج کی ترتیب (ترکی لفظ)۔

◌ وِجَاق و اُوجَاق جمع وُجاقات: ولائتی چولہا (cooking range) (پکانے والا) سٹوو، (گرم کرنے والا) سٹوو، باورچی خانہ، جہاز کا باورچی خانہ، جانثار فوجیوں کا دستہ۔

وجل ا۔ وَجَلَ يَوْجَلُ وَجْلًا ہٗ: سے زیادہ ڈرنے والا ہونا، سے بڑھ کر ڈرجانا۔ وَجِلَ يَوْجَلُ وَجَلًا و مَوْجَلًا: ڈرنا، یا خوف محسوس کرنا (اس کا مضارع يَيْجَلُ وَيَاجَلُ اور يِيجَلُ بھی آتا ہے)۔ وَجِلَ يَوْجَلُ وَجَالَةً بوڑھا ہونا۔ واجَلَ مُواجَلَةً ہٗ فوجَلَهٗ اس نے اُس سے خوف میں مقابلہ کیا تو وہ اس سے بڑھ کر ڈر گیا۔ اَوْجَلَ ہٗ کو ڈرانا، کو خوف زدہ کرنا۔ الوَجَل جمع اَوْجَال ڈر، خوف۔ الوَجِل جمع وَجِلُون و وِجَال مونث وَجِلَة ڈرنے والا، خوف زدہ۔ الأَوْجَل خوف زدہ (مونث میں وَجلاء نہیں کہتے بلکہ وَجِلَة کہتے ہیں)۔ کہا جاتا ہے: هو اَوْجَلُ مِنكَ: وہ تم سے زیادہ خوف زدہ ہے یا زیادہ ڈرنے والا ہے۔ الوُجُول بوڑھے (لوگ)۔ المَوْجَل: خوف کی جگہ۔

۲۔ الوَجِيل والمَوْجِل: وہ گڑھا جس میں پانی جمع رہے۔

◌ وَجِلَ يَوْجَلُ وَجَلًا و مَوْجَلًا: خوف زدہ ہونا، سہما ہوا ہونا، بزدل ہونا، ڈرپوک ہونا، پست ہمت ہونا۔ اَوْجَلَ ہٗ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، وحشت زدہ کرنا۔ وَجَل جمع اَوْجَال: خوف، دہشت۔ وَجِل جمع وَجِلُون و وِجَال: خوف زدہ، ڈرا ہوا، بزدل، ڈرپوک، پست ہمت، اندیشناک، سہما ہوا۔

وجم ا۔ وَجَمَ يَجِمُ وَجْمًا: گھونسا مارنا۔

۲۔ وَجَمَ يَجِمُ وَجْمًا و وُجُومًا: غصہ یا خوف کی شدت کی وجہ سے خاموش رہنا اور بول نہ سکنا (کہا جاتا ہے: لَمْ أَجِمْ عنه: میں نے گھبراہٹ کی وجہ سے اسے جواب نہیں دیا) غم کی زیادتی سے ترش رو ہو کر سر جھکا لینا۔ صفت: وَجِم و واجِم۔ ـــ من الأمرِ: سے اس کو ناپسند کرتے ہوئے ہٹ جانا۔ ـــ الشيءَ: کو ناپسند کرنا۔ ـــ لفلانٍ من كذا: کسی پر کسی وجہ سے دل نرم ہونا، غم کھانا۔ الأَوْجَم اسم تفضیل۔

۳۔ الوَجَم جمع وُجُوم و اَوْجَام ٹیلوں یا قبروں پر پتھروں کا ڈھیر یا جنگلوں میں راستہ کے نشانات۔ رَجُلٌ وَخْمٌ: بُرا آدمی۔ کہا جاتا ہے: هو وَجْمُ سوءٍ: وہ برا آدمی ہے۔ بيتٌ وَجْمٌ: بڑا گھر۔ الوَجَم بخیل، کمینہ، ہلکے پھلکے جسم والا۔ ـــ جمع وُجُوم و اَوْجَام بمعنى الوَجَم۔ بيتٌ وَجْم: بڑا گھر۔ الوَجْمَة: ایک مرتبہ کی خوراک۔ الوَجْمَة بے عزتی، رسوائی۔ الوَجِيمُ من الأيامِ: سخت گرم دن۔ اَوْجَمُ الرملِ: ریت کا بڑا قطعہ۔

◌ وَجَمَ يَجِمُ وَجْمًا و وُجُومًا: خاموش ہونا، بے زبان ہونا، بے سخن ہونا، گم سم ہونا (خوف غصہ وغیرہ کی وجہ سے) شرمیلا ہونا، جھینپنے والا ہونا، پست ہمت، دل شکستہ ہونا، رنجیدہ، آزردہ یا اداس ہونا، افسردہ ہونا، دل گیر ہونا، ملول ہونا۔ واجِم خاموش، چپ چاپ، بے زبان، بے سخن، گم سم، جھینپنے والا، پست ہمت، دل شکستہ، رنجیدہ، افسردہ، آزردہ، اداس، دلگیر، ملول۔ وُجُوم: خاموشی، تشویشناک اور پریشان کن خاموشی، غصہ کی وجہ سے بے زبانی، بے زبان غصہ، دل شکستگی، مایوسی، یاس، ناامیدی، شرمیلا پن، پریشانی، تشویش، فکر، غم [illegible] دل شکستہ آزردہ، افسردہ، دل گیر، ملول۔

وجن: وَجَنَ يَجِنُ وَجْنًا بالشيءِ: کو پھینکنا۔ ـــ الوتدَ: میخ، کھونٹی ٹھونکنا۔ ـــ بہ الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا۔ ـــ القصّارُ الثوبَ: دھوبی کا کپڑے کو کوٹنا۔ وَجَّنَ الجلدَ: چمڑے کو نرم کرنے کے لئے کوٹنا۔ تَوَجَّنَ: ذلیل ہونا، عاجز ہونا، مطیع ہونا۔

الوَاجن و الوَجْن و الوَجَن: سخت پتھریلی زمین۔ الوَجْنَة و الوِجْنَة و الوُجْنَة و الوَجَنَة و الأُجْنَة و الإِجْنَة و الأَجْنَة جمع وَجَنَات: گالوں کا ابھرا ہوا حصہ، رخسارہ۔ الوَجِين جمع وُجُن وادی کا کنارہ، سامنے کی پتھریلی اور قدرے اونچی زمین۔ الأَوْجَن مونث وَجْنَاء: سخت پہاڑ، بڑے رخساروں والا۔ ناقةٌ وَجْنَاء سخت اونٹنی۔ المُوَجَّن: بڑے رخساروں والا، بہت گوشت والا۔ المَوْجُون (مفع) شرمندہ۔ المِيجَنَة جمع مَيَاجِن و مَوَاجِن: دھوبی کی کپڑے کوٹنے کی موگری۔

◌ الوَجْنَة جمع وَجَنَات عارض، رخسار، گال۔

وجہ ا۔ وَجُهَ يَوْجُهُ وَجَاهَةً: ذی وجاہت ہونا۔ وَجَّهَ ہٗ الامیرُ: کو امیر کا باعزت بنانا۔ ـــ الشيءَ: کو کسی طرف پھیرنا۔ ـــ القومُ الطريقَ: قوم کا راستہ پر چلنا اور نشان واضح کرنا۔ ـــ المطرُ الأرضَ: بارش کا زمین کا خول اتارنا اور زمین پر نشان ڈالنا، زمین پر ایک روش سے پڑنا۔ ـــ لِعَبْدِہٖ: اپنے غلام سے کہنا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ ـــ البيتَ: گھر کو قبلہ رخ کرنا۔ ـــ إلى فلانٍ کی طرف جانا۔ ـــ ہٗ إلى فلانٍ: کو کے پاس بھیجنا۔ ـــ تِ الريحُ الحصى: ہوا کا کنکریاں اڑا لیجانا۔ واجَہَ وِجَاهًا و مُواجَهَةً ہٗ: کے آمنے سامنے ہونا، سے رو در رو ملنا۔ کہا جاتا ہے: لَقِيَهُ مُوَاجَهَةً وَ وِجَاهًا: وہ اس سے روبرو ملا۔ اَوْجَہَ إيجاهًا الرجلَ: کو وجیہہ بنانا، وجیہہ پانا، کو مرتبہ دینا، کو رد کرنا۔ تَوَجَّہَ إليه: کے پاس جانا، کا قصد کرنا۔ ـــ الجيشُ: لشکر کا شکست کھانا۔ ـــ الشيخُ: بوڑھے کا سن رسیدہ ہونا۔ تَوَاجَہَ الرجلان او المنزلان: دو آدمیوں یا مکانوں کا آمنے سامنے ہونا۔ اِتَّجَہَ إليه: کے پاس جانا، کی طرف متوجہ ہونا۔ ـــ لَہٗ رأيٌ: کو رائے سوجھنا۔ الوَاجِهَة: پیشانی، سامنے کا حصہ۔ الجِهَة و الجُهَة و الوِجْهَة و الوُجْهَة جمع جِهات و جُهَات و جُهات و الوُجْهَة و الوِجْهَة: پہلو، جانب، گوشہ، رخ، جس کی طرف توجہ ہو۔ کہا جاتا ہے: ضَلَّ وِجْهَةَ أمرِہ: وہ اپنا قصد بھول گیا۔ الوَجْه (مص) جہت (کہا جاتا ہے:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لهذا القولُ وَجْهٌ: اس قول کا ایک ماخذ یا ایک رخ ہے)، قصد و نیت (کہا جاتا ہے: الوجه ان یکون کذا: ظاہر قصد یہ ہے کہ ایسا ہو) کام وغیرہ جس کی طرف انسان متوجہ ہو، خوشنودی (کہا جاتا ہے: فعل ذلك لوجه اللّٰه: اس نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کیا)، مرتبہ، منصب۔ ـــ جمع وُجُوه: قوم کا سردار (کہا جاتا ہے: رجُلٌ وَجْهٌ: صاحب عزت وقدر آدمی) نوع، قسم۔ وجهُ الکلام: گفتگو کا مقصود (کہا جاتا ہے: الکلام فیه علی وجوهٍ او علی اربعة اوجه: اس گفتگو کے کئی یا چار مقصود ہیں۔ لیس لکلامِكَ وَجْهٌ: تمہاری بات صحیح نہیں یا تمہاری بات کی کوئی وجہ صحت نہیں۔ صرفَ الشيءَ عن وَجهِهِ: اس نے چیز کو اس کے مروجہ عمل سے ہٹا دیا)۔ ـــ ج اَوجُه و وُجُوه و اُجُوه: چہرہ (کہا جاتا ہے: رجُلٌ ذو وجهين: وہ شخص جو دل کی بات کے خلاف بات ظاہر کرے۔ فلانٌ اَحْسَنُ القوم وجْهًا: فلاں شخص قوم میں سب سے اچھی حالت میں ہے۔ ضربَ وجهَ الأمر و عينه: اس نے کام کی اچھی تدبیر کی۔ مَضى علی وَجْهِهِ: وہ بے پروائی سے گزرا۔ ابْيَضَّ وَجْهُهُ و بَيَّضَ اللّٰه وجهَهُ: یہ اس وقت کہتے ہیں جب کہ کوئی شخص قابل تعریف کام کرے۔ اِسْوَدَّ وجهُهُ یا سَوَّدَ اللّٰهُ وجهَه: یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی قابل ملامت کام کرے۔ وجهُ الثوب و نحوه: کپڑے کا سیدھا حصہ۔ وجهُ الدهر: کسی زمانہ کا شروع، کسی زمانہ کا پہلا حصہ۔ (کان ذلك علی وجه الدهر: یہ اس زمانہ کے شروع میں ہوا)۔ کثیر الوجوه: جانب، کنارہ، گوشہ، کثیر الزوایہ یا کثیر الاضلاع (شکل) الوِجْه و الوُجْه: جانب، کنارہ، گوشہ۔ لوَجِه و الوَجُه: صاحب جاہ و مرتبہ۔ کہا جاتا ہے: هُمْ وِجاهُ الفٍ: وہ کوئی ایک ہزار ہیں۔ وَجَاهَهُ و وِجَاهَهُ و وُجَاهَهُ و تِجاهَهُ و تُجاهَهُ و تَجاهَهُ: کے سامنے، کے مقابل۔ قعدوا تجاهَهُ و وجاهَهُ: وہ اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ الوَجَاهَة (مص): جاہ و مرتبہ، عزت۔ الوَجِيه جمع وُجَهَاء مؤنث وَجِيهَة جمع وَجِيهات و وَجَائِه: قوم کا سردار، صاحب وجاہت۔ ـــ من الاکسية: دورخی چادر۔ الوَجِيهَة: وَجِیہ کا مؤنث: ایک دور خا مہرہ جسے نظر بد سے بچنے یا حصول عزت کی خاطر گردن میں لٹکاتے ہیں۔ الأَوْجَه: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: هو اوجهُ قومِهِ: وہ قوم میں سب سے زیادہ وجاہت کا مالک ہے۔ نظروا اِلَيَّ بأُوَيْجِهِ سوءٍ: اس نے میری طرف بری نظر سے دیکھا۔ (أُوَيْجِه اَوْجَه کی تصغیر ہے جو وجہ کی جمع ہے)۔ التَوْجِيه (مص) في علم العروض: روی مقید کے ماقبل حرف کی حرکت کا اختلاف جیسے لَعِبَ و عِنَبْ میں روی مطلق اور تاسیس کا درمیان جیسے منازل میں زُ۔ المُوَجَّه: ذی جاہ۔ ـــ من الکساء: دورخی چادر۔ ـــ من الکلام: ایسا کلام جس میں دو مخالف باتوں کا احتمال ہو اور مدح یا ذم ہونا صحیح ہو۔ شيءٌ مُوَجَّهٌ: ایک ڈھنگ پر بنی ہوئی چیز۔ المُواجَهَة (مص): ملاقات (کلام سے یا روبرو)۔

٢۔ الوَجْه و الوَجَه: تھوڑا سا پانی۔

○ وَجُهَ يَوْجُهُ وَجَاهَةً: صاحب مرتبہ ہونا، مشہور و معروف ہونا، معززین میں سے ہونا۔ وَجَّهَهُ: کو ناموری تک پہنچانا، کی عزت و توقیر کرنا، کو ممتاز کرنا۔ وَجَّهَ اِلی: کی طرف رخ کرنا، مڑنا، جانا، کی جانب بڑھنا۔ ـ ہ: الی: کو کے پاس بھیجنا، کو کی طرف روانہ کرنا، کو ارسال کرنا۔ ـ ہ الی/ل: بندوق تیر وغیرہ کا رخ کی طرف کرنا، کو سے ضرب لگانا، کا رخ کی طرف کرنا، کو کی سمت چلانا، کو کا راستہ دکھانا، کا کی طرف راستہ نکالنا، کا رخ کی طرف کرنا، کی توجہ کی طرف موڑنا۔ ـ ہ اِلی: (درخواست، سوال، خط وغیرہ کو) کو لکھنا۔ وَجَّهَ الیه تُهْمَةً: پر الزام لگانا، تہمت لگانا۔ وَجَّهَ النظر اِلی: کی طرف آنکھیں موڑنا۔ وَاجَهَ ہ: کے مقابل ہونا، کے سامنے ہونا، کا رخ کرنا، سے روبرو ملنا، سے مڈبھیڑ ہونا۔ ـــ ہ: کو ذاتی طور پر ملنا، سے ذاتی طور پر گفتگو کرنا، کے ساتھ انٹرویو کرنا، کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کرنا۔ ـ ہ: (مسئلہ وغیرہ) کا سامنا کرنا، کا سامنا ہونا، اپنے آپ کو کے مقابلہ میں پانا۔ ـــ ہ: (خطرہ وغیرہ) کا مقابلہ کرنا، منہ توڑ جواب دینا، کا توڑ کرنا، سامنا کرنا، کو للکارنا، کو خاطر میں نہ لانا۔ ـ ہ: کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کی مخالفت کرنا۔ ـ ہ: کے مقابلہ میں اپنی بات پر جما رہنا؛ کا پورا احساس رکھنا، پر غور کرنا۔ ـــ ہ بأن: سے کھل کر بیان کرنا یا کہنا کہ۔ ـــ ہ ب: کو کے آمنے سامنے کرنا، کو کے روبرو کرنا، کو کے سامنے رکھنا یا لانا۔ اَوْجَهَهُ: کی عزت کرنا، کو ممتاز کرنا۔ تَوَجَّهَ نحو یا اِلی: کے پاس جانا، کی طرف جانا، کی راہ لینا، کی طرف بڑھنا، کی طرف اپنے قدم موڑنا۔ ـــ اِلی یا لِ: کی طرف منہ پھیرنا، کی طرف مڑنا، کے سامنے ہونا۔ ـــ اِلی ب: کا کے لئے رخ کرنا، سہارا لینا، کے لئے سے درخواست کرنا۔ تَوَاجَهَ: ایک دوسرے کا سامنا کرنا، روبرو ملنا۔ اِتَّجَهَ الی/نحو: کی طرف مائل ہونا متوجہ ہونا، مائل بہ ہونا، کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، کی طرف بڑھنا، کی طرف منہ کرنا، منہ کی طرف پھیرنا، کی طرف توجہ کرنا، کا رخ کرنا۔ ـ اِلی یا نحو: (سڑک کا) کی طرف جانا، کی طرف اشارہ کرنا۔ اتجه ل: کے دل میں (خیال وغیرہ) آنا۔ جِهَةٌ جمع جِهَات: جانب، رخ، سمت، طرف، علاقہ، حصہ، خطہ رقبہ، ضلع، احاطہ، شہری علاقہ، ایجنسی، اتھارٹی، انتظامی ایجنسی، انتظامی ضلع، ضلع (تونس میں)۔ الجهات: دور افتادہ علاقے، یا ضلعے؛ صوبے۔ مِن جِهَة: کی طرف سے، سے، (کے) بارے میں، (کی) بابت، (کے) متعلق، جہاں تک اس کا تعلق ہے، بابت، دوبارہ، نسبت حق میں۔ من جهة الشمال: شمال سے۔ من جهة ...... و من جهة اُخری (یا ثانیه): ایک طرف...... دوسری طرف۔ من کلِّ جهةٍ: سب طرف سے، سب طرف۔ من جِهَتي: جہاں تک میرا تعلق ہے۔ مِن هذه الجهَةِ: جیسا کہ اس زاویہ سے دکھائی دیتا ہے، اس پہلو کے تحت، اس نقطۂ نظر سے۔ جِهةُ الاختصاص یا الجهة المُخْتَصَّة: حاکم مجاز، مختار عہدہ دار۔ جِهةَ اليَسار: بائیں، بائیں طرف، بائیں جانب۔ مجلسٌ جِهَوِي: ضلع کونسل۔ (تونس)۔ وَجْه جمع وُجُوه: چہرہ، صورت، چہرہ مہرہ، روپ، پیشانی، رخ، سامنے، آگے، کسی عمارت کا روکا حصہ، اگواڑہ سامنے کا حصہ، مکان کا آگا، باہر، سطح، کپڑے کا سیدھا رخ (گھڑی یا گھنٹہ کا) ڈائل، (سکہ کا) سیدھا یا چہرے والا رخ، ممتاز شخصیت، بیرونی (حالت) صورت، شکل، وضع، وضع قطع، ملتی ہوئی صورت، مشابہت، جانب، جہت، سمت رخ، ارادہ، نیت، مراد، غرض، مطلب، منشا، مقصد، مدعا، انجام، راستہ، پالیسی، رہنما اصول، فرمان، حکم، ضابطہ عمل، طریقہ، اسلوب، طرز، طور، رواج، ریت، طریق کار، اسلوب کار، دستور العمل، وجہ، سبب، معنی، مطلب، غائت، شروع، آغاز، ابتداء، وقت کا پہلا حصہ۔ جمع وُجُوه و اَوْجه: پہلو، شکل، صورت، طرف، نقطۂ نظر، راستہ، نقطۂ نگاہ، زاویۂ نگاہ۔ (ج) اَوْجه: چاند کی شکلیں (بجلی کی شکلیں، دور بھی) وَجْهًا: ظاہرا، نظر بظاہر، بظاہر۔ وَجْهًا بِوَجْهٍ یا لِوَجْهٍ: آمنے سامنے، روبرو، علیحدگی میں، ذاتی طور پر، براہ راست۔ وَجْهًا من الوجُوه: (نفی کے ساتھ): کسی طرح بھی نہیں۔ بِوَجه

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الإجمال: بحیثیت مجموعی، فی اجملة، زیادہ تر ہر طرح سے عام طور پر عموماً۔ بَوجهِ التقريبِ یا على وَجهِ التقريب: تقریباً قریب قریب، غور سے۔ بِوَجهٍ خاص یا على وَجهٍ خاصٍ: خاص کر، خصوصاً، بالخصوص، غیر معمولی طور پر، حددرجہ۔ بِوَجهٍ عام یا على وَجهٍ عام: عموماً، عام طور پر۔ بِوَجهٍ مَا: کسی نہ کسی طرح، کسی طرح، ایک خاص حد تک۔ بِدُونِ وَجهِ حقٍ: کسی قانونی یا جائز دعوی کے بغیر، ذرا بھی مستحق ہوئے بغیر، قطعی غیر قانونی طور پر۔ على وَجهِ: کے طریقہ، انداز، اسلوب یا شکل میں کے بارے میں، کے متعلق، دربارہ۔ على وَجهِهِ: اپنے طریقہ پر، صحیح طور پر، مناسب طور، صحیح طرح جیسا کہ ہونا چاہئے۔ على غيرِ وَجهِهِ: غلط طرح غیر مناسب طریقہ سے، غلط طور پر۔ مَضَىٰ على وَجهِهِ یا ذَهَبَ على وَجهِهِ: وہ اپنے راستہ پر گیا، وہ اپنے ہی راستہ پر گیا۔ على هذا الوجه: اس طرح یو۔ على وجه الإجمال: بحیثیت مجموعی، فی اجملہ، زیادہ تر، ہر طرح سے، عام طور پر، عموماً، سب ملا کر، کل، مجموعی طور پر۔ على الوجه التالى: مندرجہ ذیل طریقہ پر، حسب ذیل۔ على وجهِ التفصيل: بالتفصیل، مفصل، تفصیل سے، تفصیلاً۔ على وَجهِ الحَصرِ: مختصر شکل میں، مختصراً، مختصر ترین لفظوں میں، اختصار سے۔ على وجهِ العموم: عام طور پر، عموماً۔ على وجه اليقين: تیقن سے۔ فی وجهِهِ: اسکے سامنے، اس کی موجودگی میں، اس کے مقابل، اسکی آنکھوں (نظروں) کے سامنے۔ لِوجهِ اللّه: اللہ تعالیٰ کے لئے، اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس زندگی میں کسی انعام واکرام سے قطع نظر کسی معاوضہ کے بغیر، مفت، بلا معاوضہ، بلا قیمت۔ مِن كلّ وجهٍ: ہر پہلو سے، ہر نقطۂ نظر سے، سب بنیادوں پر۔ مِن وُجُوهٍ كثيرة: کئی پہلوؤں سے۔ مِن بعضِ الوجوه: بعض پہلوؤں سے۔ مِن كُلِّ الوجوه: ہر پہلو سے، ہر طرح، مکمل طور پر۔ اِبيَضَّ وَجهُهُ: شاندار شہرت رکھنا، نیک شہرت رکھنا۔ اِسوَدَّ وَجهُهُ: بدنام ہونا، بے اعتبار ہونا، کی ساکھ ختم ہو جانا، رسوا ہونا۔ اخذ وَجهًا: عزت حاصل کرنا، وقار حاصل کرنا۔ اخذ وجهَ العروسةِ: خلوت صحیحہ کرنا۔ اهَانَهُ فی وَجهِهِ: کی اس کے منہ پر توہین کرنا۔ بَيَّضَ وَجهَهُ: کو بے داغ ظاہر کرنا، کی بریت میں کچھ کہنا، کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، کو بے گناہ ثابت کرنا، کا جواز پیش کرنا، کو بڑی اہمیت دینا، کی عزت وتکریم کرنا۔ خلالَهُ وَجهُ الطريق: اس کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کا راستہ صاف تھا۔ سَفَهَ وَجهَهُ یا سَوَّدَ وَجهَهُ: کو بے نقاب کرنا، کا پول کھولنا، کی اصلیت بتانا، کی حقیقت سے آگاہ کرنا، کو بدنام کرنا، کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ شَوَّهَ وَجهَ الحقيقةِ: حقیقت کی شکل بگاڑنا۔ شَوَّهَ وَجهَ الوظيفةِ: اپنے پیشہ یا منصب کو رسوا کرنا۔ ضَرَبَ وجهَ الامر وعينَهُ: معاملہ کی روح کے متعلق کچھ کہنا، نشانے پر پہنچنا۔ قَامَ فی وجه فلان: کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کا مقابلہ کرنا۔ الوجهُ البَحرِى: نچلا مصر۔ الوجه القِبلِى: بالائی مصر۔ وجهُ الحال: حالات، معاملات کی حالت، واقعاتی صورت حال۔ وَجهُ الشِبهِ: مشابہت کا نقطہ۔ كلام ذو وجهين: مبہم الفاظ، ذو معنی یا مشتبہ بیان۔ وجوهِ الناس: ممتاز لوگ، سرکردہ شخصیات۔ لاوَجهَ لَهُ: کی کوئی وجہ نہیں۔ لاوجهَ لَهُ من الصحة: اس کی بالکل کوئی معقولیت نہیں، یہ قانونی طور پر قطعاً جائز نہیں۔ وَجهِى: چہرے کا، چہرے کے متعلق۔ وِجهَة و وُجهَة جمع وجهات: رجحان، سمت، رخ، طرف، بہاؤ، دھارا، رَو، میلان، (بحری جہاز کا) راستہ، ارادہ، مقصد، ہدف، نشانہ، عزت، احترام۔ وِجهَةَ النظر: زاویہ نظر، نقطۂ نظر، نقطۂ نگاہ۔ من هذه الوِجهَة: اس بارے میں، اس نقطۂ نظر سے۔ من وِجهَةٍ اخرى: مختلف نقطۂ نگاہ سے، ایک اور نقطۂ نظر سے۔ وِجهتُهُ باريس: وہ پیرس کے سفر پر ہے، وہ پیرس جا رہا ہے۔ وَجَاهَة: لحاظ، پاس، شہرت، نیک نامی، وقار، اثر (و رسوخ)، مسلمہ حیثیت، رتبہ، امتیاز، اہم شخصیت، قبولیت، پسندیدگی، مضبوط بنیاد، اچھی حالت، ٹھوس پن، درستی، صحت، جواز۔ ذو وَجَاهَةٍ: رتبہ والا، نامور، ممتاز، مشہور۔ اهلُ الوجاهة: معززین۔ وِجَاهِى: متناقض، مخالف، برعکس، برخلاف، منافی۔ وَجِيه جمع وُجَهاء: معزز، معروف، مشہور، نامور، ممتاز، قابل احترام، رہنما، قابل قبول، مضبوط بنیادوں والا، صحت مند۔ الوُجَهاء: معززین۔ سبب وَجِيه: درست ومضبوط وجہ۔ وَجِيهَة جمع وَجِيهات: اعلیٰ اجتماعی حیثیت رکھنے والی خاتون، معاشرہ کی خاتون۔ تجاهَ: کے سامنے، کے مقابل۔ توجيه جمع توجيهات: (ماتحتوں کے لئے) مفصل ہدایات، ہدایات۔ توجيه خطاهُ: کو ملنے والی ہدایات۔ السنة التوجيهية: ثانوی مدرسہ کا پانچواں گریڈ جس کی تکمیل یونیورسٹی میں داخلہ کے لئے ضروری ہے۔ شهادة توجيهية: ڈپلوما جو ثانوی سکول کے پانچویں گریڈ پاس کرنے پر دیا جاتا ہے، جس کے بعد کامیاب طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ طلبة التوجيهى: ثانوی مدرسہ کے پانچویں گریڈ کے طالب علم۔ بمواجهته: اسکی موجودگی میں۔ توَجُّه: توجہ، جانب داری، جنبہ داری، پاسداری، سرپرستی۔ اِتجاه جمع اتجاهات: رخ، طرف، سمت، میلان، رجحان، جھکاؤ، بہاؤ، دھارا، راست رخ بندی (بحری جہاز کا) راستہ۔ طريق ذو اتجاهٍ واحِد: یک طرفہ ٹریفک کی سڑک۔ اتجاه واحد: صرف یکطرفہ (ٹریفک کا نشان)۔ وَاجهَة جمع وَاجِهات: چہرہ، پیشانی، بیرونی (عمارت کا) پیش یا ماتھا، چہرہ مہرہ، کھڑکی جس میں دوکاندار فروخت کی چیزوں کی نمائش کرتا ہے، شو ونڈو (show window)۔ واجهة القتال: فرنٹ لائن، لڑائی کا محاذ۔ مُوَجِّه: میٹ (بحریہ کا ایک رتبہ)۔ مُوَجَّه: ریموٹ کنٹرولڈ؛ گائڈڈ (دور سے کنٹرول یا گائڈ شدہ)۔ مُتجِه: جانے والا، مائل، ہادف (فی ایک سمت میں)۔ مُتَّجَه: سمت، رخ۔ فی كلِ مُتجَهٍ: سب طرف، چاروں طرف، سب میدانوں میں، ہر پہلو سے۔

وجی ۱۔ وَجَى يَجِى وَجْيًا الرجُل: کو نکما پانا۔ أَوْجَى إيْجَاءً ا الرجُلَ: کو نکما اور بیکار کرنا۔ —عليه: سے بخل کرنا۔ — الرجُلَ: حاجت کے لئے آنا اور ناکام رہنا (کہا جاتا ہے: سَأَلَ حَاجَةً فأَوْجَى: اس نے حاجت کا سوال کیا اور ناکام رہا)۔ — عن كذا: سے اعراض کرنا۔ — الشیء: کو دور کرنا۔ — فلاناً: کو حاجت سے پھیر دینا (کہا جاتا ہے: أوْجَاه عنه: اس نے اسے دھتکار دیا)۔ أوْجيتُ عنكم ظلمَ فلانٍ: میں نے تم سے فلاں کا ظلم رفع کر دیا۔ الوَجِىّ: بے خیر، ناکارہ، بیکار، نکما۔

۲۔ وَجِىَ يَوْجَى وَجًى و تَوَجَّى الماشى: چلنے والے کا ننگے پاؤں ہونا یا چلنے سے اس کے پاؤں گھسنا صفت: وَجٍ و وَجِىّ مؤنث وَجِيَة و وَجْيَاء۔

۳۔ أوْجَى ايجاءً الرجُلَ: کو دنیا، عطا کرنا۔

۴۔ الوِجَاء: چھوٹی بوری جمع الأوجية۔

وحّ ۱۔ وَحْوَحَ: بھاری یا پھٹی ہوئی آواز نکالنا، سخت سردی سے ہاتھ میں پھونک مارنا اور "أَح اَح" یا "حو حو" کہنا، سانس سے ہاتھ گرم کرنا۔ توَحْوَحَ الظليمُ فوق البيض: شترمرغ کا انڈوں سے محبت کرنا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ الوَحْوَح جمع

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وَحَاوِح: کم آمیز، تیز دل والا ۔ ـــــ والوَحْوَاح جمع وَحَاوِح: بھونکا کتا۔

۲۔ الوَحْوَح جمع وَحَاوِح: پھرتیلا، مضبوط، قوی (مرد)۔ الوَحْوَاح جمع وَحَاوِح: قوی۔ ـــ جمع وَحَاوِیح: سردار، سربراہ۔

وحج: وَحِجَ یَوْحَجُ وَحَجًا بہ: کی پناہ طلب کرنا، کی پناہ لینا۔ اَوْحَجَ ہُ: کو پناہ دینا۔ الوَحَج: پناہ گاہ۔

وحد: وَحَدَ یَحِدُ وَحْدًا و وَحْدَةً و حِدَةً و وُحُودًا و وَحُدَ یَحِدُ وَحَادَةً و وُحُودَةً: اکیلا ہونا صفت وحید۔ وَحَّدَ توحیداً ہُ: کو ایک بنانا۔ ـــ اللّٰہَ تعالٰی ایک خدا پر ایمان لانا، خدا کو یکتا کہنا یا لا الٰہ الا اللہ کہنا۔ اَحَّدَہُ: کو ایک بنانا۔ اَوْحَدَ اِیْحَادًا ہُ: کو اکیلا چھوڑنا، کو لاثانی جاننا، کو یکتائے زمانہ سمجھنا۔ ـ ہُ للأعداء: کو دشمن کے سامنے اکیلا چھوڑ دینا۔ ــــ ت الشاةُ: بکری کا ایک بچہ جننا صفت مُوحِد۔ تَوَحَّدَ: اکیلا رہنا۔ ـــ ہُ بالفضل: پر مہربانی کرنا، کو دوسرے کے سپرد نہ کرنا۔ ـ برأیہ: رائے میں تنہا ہونا، منفرد ہونا۔ اتَّحَدَ الشیئان: دو چیزوں کا ایک ہونا۔ ـ الشیءُ بالشیءِ: ایک چیز کا دوسری سے ملنا، جڑنا۔ ــــ القوم: لوگوں کا متفق ہونا۔ الوَاحِد مؤنث واحدہ ایک تثنیہ واحِدان جمع وَاحِدون: ایک (چیز یا شخص وغیرہ) (کہا جاتا ہے: ھُو واحدُ قومہ: وہ اپنی قوم میں لاثانی ہے) جمع وُحْدان و اُحدان: لوگوں میں علم و فضیلت وغیرہ میں آگے۔ واحد 'احد' کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی یکتا جس کی کوئی نظیر نہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو اور اسماء حسنہ میں وہ اسی معنی میں آتا ہے کبھی عدد کی صفت بن کر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: الفٌ واحد و عشرة واحدة: ایک ہزار، ایک دس۔ الحِدَة: مص: کہا جاتا ہے: بقی علی حِدَتہ: وہ علیحدہ باقی رہا۔ فَعَلَہُ علی ذات حِدَتِہ و من ذات حِدَتہ و من ذی حِدَتہ: اس نے اسے بذات خود اور اپنے رائے سے کیا۔ الوَحْد (مص): اکیلا۔ وحدہ (مص): اکیلا۔ کہا جاتا ہے: رأیتُہُ وَحْدَہ او جاءَ وَحْدَہُ: میں نے اسے اکیلا دیکھا، وہ اکیلا آیا (مصدر ہے تثنیہ اور جمع نہیں آتی۔ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ اسم ممکن ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: جَلَسَ وَحْدَہ و علی وَحْدِہ و علی وَحْدِھما و وَحْدَیْھما و وَحْدِھِم: بعض کے نزدیک اضافت صرف اس صورت میں آتی ہے جب کہا جائے: فلانٌ نسیجُ وَحْدِہ: وہ اپنی قسم میں بے مثال ہے۔ مدح کے طور پر اور فلانٌ عُیَیْرُ وَحْدِہ و جُحَیْشُ وَحْدِہ: وہ خود پرست ہے اور وہ خود رائے ہے) ذم کے طور پر۔ رجلٌ وَحْدٌ: اکیلا آدمی۔ اَجِیرُ الوَحْد: خاص مزدور۔ الوَحَد و الوَحِد مؤنث وَحَدَةٌ و وَحِدَةٌ: تنہا اکیلا۔ الوَحْدَة (مص): تنہائی۔ الوَحْدةُ الفلکیة (فلك): زمین کی سورج سے اوسط دوری جو ۱۴۹،۵۰۰،۰۰۰ کیلومیٹر ہے۔ الوَحْدانی: اکیلا، تنہا۔ الوَحْدانیة: وحدانیت، اکیلا ہونا۔ وُحَادَ و اُحَادَ و مَوْحَدَ: ایک ایک۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا وُحادَ و اُحادَ و مَوْحَدَ: وہ ایک ایک کر کے آئے۔ مؤنث میں بھی اسی طرح۔ الوَحِید: اکیلا۔ الاِتِّحاد: مرکب جسم۔ الاِتِّحادِی: مزدوروں کی یونین کا رکن، سیاسی وحدت سے خاص، سیاسی وحدت کا وفاقی۔ الاِتِّحادِیَة: اتحادی کی صفت، مزدور یونین کا نام۔ الأحَد: اکیلا (کہا جاتا ہے: رجلٌ اَحَدٌ: اکیلا مرد)، بے نظیر، بے مثال، لاثانی۔ وصف باری تعالٰی کے طور پر کہا جاتا ہے: ھو الواحد و ھو الأحد: اس معنی میں باری تعالٰی کے سوائے کسی اور کی صفت کے طور پر نہیں آتا۔ اسماء کے عدد کے طور پر کہا جاتا ہے: احدٌ و عشرون و واحدٌ و عشرون: اکیس۔ اور مذکر کیلئے آتا ہے، بعض دفعہ مؤنث کیلئے بھی آجاتا ہے جیسے: لَسْتُنَّ کأحد من النساء: (اسی صورت میں یہ شئی کا معنی دیتا ہے) تم عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو۔ احد کا مؤنث اِحْدٰی ہے اور اکیلا نہیں آتا۔ جیسے: اِحْدٰی و عِشرون و اِحْدٰی عشرة: ۲۱ اور گیارہ (عورتیں وغیرہ)۔ اِحْدٰی بنات طَبَق: مصیبت، سانپ۔ کہتے ہیں: ھو ابنُ اِحْدَاھا: وہ شریف ماں باپ کا ہے (مردوں اور اونٹوں میں سے) ضمیر امہات کے لئے ہے۔ یومُ الأحَد جمع آحاد: اتوار کا دن۔ الأوْحَد: وحدانیت والا۔ اللّٰہُ الأوْحَد: اللہ وحدانیت والا۔ کہا جاتا ہے: ھو اَوْحَدُ اھل زمانِہ جمع اُحدان: یعنی وہ اپنے زمانہ کا بے مثال آدمی ہے۔ لستُ فی ھذا الامر بأوْحَدَ: میں اس کام میں اکیلا نہیں ہوں۔ مؤنث کو وَحْداء نہیں کہا جاتا ہے۔ التوحید (مص): اللہ تعالٰی کی وحدانیت کا عقیدہ۔ المُوَحِّد (فا): اللہ تعالٰی کی وحدانیت پر اعتقاد رکھنے والا۔ المُوَحَّد من الحروف: ایک نقطہ والا الحرف جیسے: ب۔ المُتَوَحِّد جمع مُتَوَحِّدُون: اکیلا۔ المُتَوَحِّدون من الرُّھبان: اللہ تعالٰی کی عبادت کیلئے جنگلوں اور پہاڑوں میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر رہنے والے راہب۔ المِیحاد جمع مَوَاحِید: اکیلا اکیلا۔

○ وَحَدَ یَحِدُ وَحْدَةً وحِدَةً و وَحُدَ: اکیلا ہونا، منفرد ہونا، بے مثال ہونا، فقید المثال ہونا، عدیم المثال ہونا، یکتا ہونا، واحد ہونا، ایک ہونا، منفرد ہونا، بے نظیر ہونا، بے ہمسر ہونا۔ وَحَّدَ ہ: کو ایک کرنا، متحد کرنا، یکساں کرنا، ہم معیار بنانا، ایک معیار کا بنانا، باضابطہ بنانا، قانون کے مطابق بنانا۔ ـ بینھم: کے مختلف حصوں کو مربوط کرنا، جوڑنا، ملانا، متحد کرنا، اکٹھا کرنا، ایک دوسرے سے لگانا، یکجا کرنا، کا الحاق یا ادغام کرنا، کو مدغم کرنا، ملحق کرنا، کی آمیزش کرنا، کا انضمام کرنا۔ وَحَّدَ اللّٰہَ: اللہ تعالٰی کی وحدت کا اعلان کرنا، خدا کے ایک ہونے پر ایمان رکھنا، خدا کو ایک ماننے والا ہونا، موحد ہونا۔ وَحَّدَ الدیونَ: قرضوں کو منتظم کرنا، جمع کرنا، کسی سرمایہ میں لگانا۔ تَوَحَّدَ: ایک ہونا، اکیلا ہونا، اپنا آپ ہونا، صرف ایک ہونا، بے مثال ہونا، فقید المثال ہونا، لاثانی ہونا، تنہا ہونا، تنہائی پسند ہونا، عزلت گزیں ہونا، اکیلا رہنا، تنہائی کی زندگی گزارنا۔ ـــ ب: کو اکیلے اکیلے کرنا، تن تنہا کرنا: ــــ: ایک ہو جانا، متحد ہونا، معیاری ہونا، متفق ہونا، مستحکم ہونا، وحدت یا اتحاد بنانا۔ تَوَحَّدَ برأیہ: رائے رکھنے میں اکیلا ہونا۔ تَوَحَّدَہ بعنایتہ: کو خصوصی توجہ کے لئے چن لینا، کو خصوصی توجہ دینا۔ اِتَّحَدَ: ایک ہونا، وحدت بنانا، متحد ہونا، یکجا ہونا، مستحکم و مضبوط ہونا، مدغم ہونا، کسی اتحاد میں شامل ہونا یا کوئی اتحاد بنانا۔ ـ ب: سے متحد ہو جانا، سے یکجا ہو جانا۔ ــ: متفق ہونا، یک دل ہونا، یک آواز ہونا، مل کر کام کرنا، اتفاق کرنا، ایک ساتھ ہونا۔ حِدَة: تنہائی، یکتا و تنہا ہونا۔ علٰی حِدَة: اکیلا، اکیلے اکیلے، علیحدہ، علیحدہ علیحدہ، الگ تھلگ۔ کلٌّ علٰی حِدَةٍ: ہر ایک علیحدہ علیحدہ، ہر ایک فرداً فرداً، الگ الگ۔ وَحْدَہٗ مؤنث وَحْدَھا یا علیٰ وَحْدِہٖ و غیرہ: (وہ) اکیلا، خود۔ جاءَ وَحْدَہ: وہ اکیلا آیا۔ لا ...... وَحْدَہٗ بَلْ: نہ صرف...... بلکہ۔ وَحْدَة: ایک ہونا، یک دل ہونا، یکدلی، اتحاد، اکیلا ہونا، اکیلا پن، خلوت، علیحدگی، آزادی، الگ تھلگ ہونا۔ جمع وَحَدات: فوجی یونٹ، (جہاز کا) عملہ، ایک گروہ، جتھابندی، پلانٹ یونٹ، تنصیب، ایک صنعتی پلانٹ کا ذیلی یونٹ، ماتحت دفتر، شاخ دفتر، ذیلی دفتر (کسی انتظامی ایجنسی کا)۔ وحدات الاشارة: مواصلاتی یونٹس (فوج کے)۔ وَحْدَةُ الزَّمن: ٹائم یونٹ، وقت کی اکائی۔ وحدةٌ طائفیّة: فرقہ وارانہ گروہ،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مذہبی اقلیت۔ الوَحْدَۃُ العربیۃ:عرب اتحاد، عرب یونین۔ وَحْدَانِی ایک، تنہا، یک طرفہ، تنہا، یکتا و تنہا، یگانہ، علیحدہ، انفرادی، منفرد، واحد، بلا شرکت غیرے؛ مخصوص، خاص الخاص، مفرد، بیمثال، فقید المثال، غیر مساوی، بے نظیر، تن تنہا، چھڑا غیر شادی شدہ۔ وَحْدَانِیَۃ اکیلا ہونا، تنہائی، علیحدگی، عزلت، اخفاء، اکیلا پن، ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی، منفرد یا بے مثال ہونا، بے مثلی، لا ثانیت۔ وَحِید۔ اکیلا، تنہا، ایک علیحدہ، منفرد، اکادکا، واحد، بلا شرکت غیرے، مخصوص، خاص، خاص الخاص، محدود، اکلوتا بیمثال، فقید المثال، بے نظیر، غیر مساوی۔ وَحِیدَۃُ اَبَوَیہا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی۔ وَحِیدُ اَبَوَیہِ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ اَوْحَد: یکتا، عدیم المثال۔ تَوْحِید اتحاد، اتفاق، دھڑا، ایکا، پگھلا کر ملانا، ہم معیاری، ہم معیاریت، استحکام، پیوستگی، الحاق، ادغام، انضمام، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کائنات کی وحدت میں مل جانا (تصوف)۔ توحیدُ الدُیُون قرضوں کا ادغام۔ توحیدُ الزَوجۃ: یک زوجگی۔ توحیدُ الکلمۃ: اتحاد، کامل اتفاق، کامل ہم آہنگی، توانائیوں کو اکٹھا کرنا۔ توحیدُ المنتوجات: صنعتی پیداروں کی ہم معیاری یا ہم معیاریت۔ علم التوحید علم دینیات۔ اِتحاد ایک ہونا، اکیلا ہونا، اکیلا پن، اتفاق، موافقت، ہم آہنگی، ایکا، میل ملاپ، باہمی رضامندی، یکدلی، تال میل، کامل اتفاق، کامل اتفاق رائے، ادغام، انضمام، معاہدہ، میثاق، رشتہ، ناطہ، تعلق، قرابت، ممالک مسلکہ، نیم وفاقی ریاستیں، اتحاد، انجمن، ایسوسی ایشن، یونین، وفاق، کیمیائی مرکب۔ باتحاد بلکر، ہم آہنگی سے، مشترکہ کوششوں سے، اکٹھے، مشترکہ طور پر۔ اِتحادُ الآراء کامل اتفاق رائے، بالاتفاق۔ اتحادُ البریدِ العام: عالمی ڈاک خانوں کی یونین۔ اتحادُ جنوب افریقیۃ جنوبی افریقہ کی یونین۔ اتحاد الدول العربیۃ متحدہ عرب ریاستیں۔ یعنی متحدہ عرب جمہوریہ و یمن۔ اتحاد السوفیت یا الاتحاد السوفیتی۔ سویت یونین۔ اِتحادِی: مزدور یونین کا رکن (برطانیہ میں) وفاقی۔ الواحد: ایک خدا۔ واحداً واحداً یا واحداً فواحداً یا واحد بعد واحد یا واحد بعد الآخر۔ ایک ایک کرکے، علیحدہ علیحدہ، یکے بعد دیگرے، پے درپے، ایک وقت میں ایک۔ الواحدُ منهم: ان میں سے ایک، ان میں سے ہر ایک۔ واحد کھذا: اس جیسا، ایسا آدمی، اس جیسا کوئی (ایک)۔ کلُّ واحدٍ: ہر شخص۔ فی موضعٍ واحدٍ ایک ہی جگہ۔ ولا واحد: کوئی ایک بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ زَرَافَاتٍ و وُحداناً: گروہوں میں اور اکیلے اکیلے۔ مُوَحِّد: ایک خدا کو ماننے والا، توحید پرست جمع مُوَحِّدون مُوَحَّد: مشترکہ، مستحکم، مدغم، متحد، ہم معیار، باقاعدہ، باضابطہ، یک قطبی (برقیات)، ایک نقط والا حرف۔ مُتَوَحِّد: تنہا، شاذ و نادر، غیر معمولی طور پر اچھا، نادر الوقوع، کبھی کبھار کا، گوشہ نشین، تیاگی، تارک الدنیا، زاہد۔ الولایات المتحدہ یونائیٹڈ سٹیٹس، متحدہ ریاستیں۔ الامم المتحدۃ اقوام متحدہ۔ مُسْتَوحِد: تنہا، الگ تھلگ، اکادکا۔

وحر: ۱۔ وَحِرَ یَوْحَرُ وَحَراً چھپکلی کی مانند کیڑے کی خراب کردہ خوراک کھانا یا پینا اور اس کے زہر کا کھانے پینے والے پر اثر کرنا۔ ـ الطعامُ خوراک کا چھپکلی کی مانند کیڑے سے زہر آلود ہونا یا خوراک میں اس کیڑے کا گر جانا۔ صفت: وَحِر۔ ـ یَحَرُ و یَوْحَرُ و یَیْحَرُ وَحَراً علیہ: پر سخت ناراض ہونا، سینہ کا کینے سے بھر جانا۔ صفت: وَحِر۔ اَوْحَرَہٗ کو ناراض کرنے والی باتیں سنانا۔ ـــ تِ الوَحَرَۃُ الطعامَ: چھپکلی کی طرح کے کیڑے کا خوراک کو قے یا دست آور کرنا۔ الوَحْر: کینہ، سخت غصہ، کھوٹ۔ الوَحَر (مص) غصہ، کینہ، سینہ کی سوزشیں۔ الوَحَرَۃ جمع وَحَر (ح): چھپکلی کی مانند ایک زہریلا کیڑا (کہا جاتا ہے کہ کسی چیز پر چلے تو اسے زہریلا کر دیتا ہے)۔

۲۔ الوَحَرۃ جمع وَحَر: پست قد عورت یا اونٹنی۔ امرأۃ وَحَرَہ بدشکل کالی یا لال رنگ کی پستہ قد عورت۔

وحش: وَحَشَ یَحِشُ وَحْشاً و وَحَّشَ بثوبہ او سلاحِہ: تعاقب کے ڈر سے کپڑے یا ہتھیار پھینک دینا۔ اَوْحَشَ اِیْحاشاً المکانُ: جگہ کا ویران ہونا، اجڑنا۔ ـــ المکانَ جگہ کو خالی یا اجڑا ہوا پانا۔ ـــ الرجُلُ: بھوکا ہونا، کی زادِراہ ختم ہو جانا۔ ـ الرجُلَ: کو تنہائی اور وحشت محسوس کرانا۔ تَوَحَّشَ: کپڑے پھینک دینا، بھوک سے خالی پیٹ ہونا، وحشی کی مانند ہونا۔ ـ المکانُ مکان کا ویران ہونا، اجڑنا۔ اِسْتَوْحَشَ: وحشت محسوس کرنا، کسی سے مانوس نہ ہونا، وحشت پانا (کہا جاتا ہے: اذا أقبلَ اللیلُ اِسْتأنسَ کلُّ وَحشیٍّ و اِنسیٍّ: جب رات آتی ہے تو ہر وحشی جانور مانوسیت محسوس کرتا ہے اور ہر انسان وحشت محسوس کرتا ہے)۔ ـــ منہ: سے مانوس نہ ہونا۔ ـــ المکانُ: مکان کا ویران ہو جانا، ... کی وجہ سے وحشت محسوس کرنا۔ الوَحْش (مص) جمع وُحُوش و وُحْشان (واحد: وحشی) جنگلی جانور۔ حمارُ وَحْشٍ و حمارٌ وَحْشِیٌّ جنگلی گدھا۔ بَقَرُ الوَحْشِ جنگلی گائے، نیل گائے۔ مَکانٌ وَحْشٌ اُجاڑ، سنسان، غیر آباد جگہ یا علاقہ۔ کہا جاتا ہے: مشی فی الأرض وَحْشاً وہ تنہا گیا۔ باتَ وَحْشاً اس نے بھوکے پیٹ رات گزاری۔ باتو اوھم اَوْحاش انہوں نے بھوکے پیٹ رات گزاری۔ هُوَ مِن وَحْشِ الناس وہ رذیل لوگوں میں سے ہے۔ الوَحْشَۃ خلوت، خوف یا تنہائی کی وجہ سے طبیعت کا انقباض، غم، علیحدگی، دل کی محبت سے دوری، ویران زمین۔ الوَحْشان جمع وَحاشَی: اُداس۔ الوَحْشِی وَحْش کا واحد، لوگوں سے الگ رہنے والا، ہر چیز کا دایاں پہلو، بعض کے نزدیک جانور کا وہ پہلو جس سے سوار ہوا جائے یا دودھ دوہا جائے۔ ـ من التین و نحوہ جنگلی انجیر۔ ـ من القوس: کمان کی پیٹھ۔ الوَحْشِیَۃ: وَحْشِی کا مؤنث: تیز ہوا۔ الوَحِیش جنگلی جانور۔ الجانِبُ الوَحِیش: جانور کا وہ پہلو جس کی طرف سے سوار ہوا جاتا ہے یا دودھ دوہا جاتا ہے۔ اَرْضٌ مَوحُوشَۃ جنگلی جانور والی یا بہت جنگلی جانوروں والی زمین۔

اَوْحَشَ ہٗ: کو تکلیف دینا، ستانا، بے چین کرنا، پرتشویش کرنا، کو تنہائی کا احساس دلانا، کو تنہا کرنا، اداس کرنا، کو اپنی غیر حاضری سے رنجیدہ کرنا۔ تَوَحَّشَ: بہیمانہ یا سفاکانہ ہونا یا ہو جانا، جنگلی ہونا یا بن جانا، کا وحشی ہونا یا ہو جانا۔ اِسْتَوْحَشَ: ویران، اجاڑ، سنسان یا بنجر ہونا، تنہا محسوس کرنا۔ ـــ ل: کی جدائی سے غمگین ہونا، اداس ہونا، رنجیدہ یا مغموم ہونا، کی کمی بری طرح محسوس کرنا۔ ـــ مِن: سے نفرت یا بیزاری رکھنا، سے ناپسندیدگی یا کراہت محسوس کرنا، سے گھن کرنا، سے پیار کرنے یا سے راضی ہونے میں ناکام ہونا، کے لئے کوئی خاص پسند محسوس نہ کرنا۔ ـ خوف زدہ ہونا، کھچے کھچے رہنا، بیگانہ و برگشتہ ہونا۔ الوُحوشُ الضاریۃ: غارت گر جانور، شکاری جانور۔ وَحْشَۃ تنہائی، سونا پن، غم زدگی، بیکسی، مایوسی، یاسیت، ویرانی، اداسی، دل شکستگی، سرد مہری، بے کیفی، اجنبیت، غم و الم، حزن و ملال، رنجش، کشیدگی، بیگانگی۔ وَحْشِی: ناپالتو، جنگلی، گاؤدی، گھامڑ، ظالم، جابر، وحشی، غیر متمدن، غیر مہذب، بدشکل، کریہ، گھناؤنا، نفرت انگیز۔ الکعبُ الوحشی: ٹخنہ کی بیرونی ہڈی۔ مُوحِش: اجاڑ، سنسان، غیر آباد، تن تنہا، مایوس، اکیلا، یکہ و تنہا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ستایا ہوا، بے چین، پریشان پراسرار۔

وحف: ا۔ وَحَفَ یَحِفُ وَحْفًا البعیرُ او الرجلُ: اونٹ یا آدمی کا زمین پر گر پڑنا، بیٹھ جانا۔ وَحَّفَ: زمین پر گرنا۔ — فُلانًا: کو لاٹھی سے مارنا۔ الوَحْفَةُ جمع وِحَاف: وحف کا اسم مرة۔ المَوْحِف جمع مَوَاحِف: اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ المِیْحَافُ من السوق جمع مَوَاحِیف: اپنے تھان پر رہنے والی اونٹنی۔

۲۔ وَحَفَ یَحِفُ وَحْفًا منه: کے قریب ہونا۔ — الیه: کا قصد کرنا۔ — الی کذا: کی طرف جلدی جانا۔ وَحَّفَ: جلدی کرنا۔ اَوْحَفَ اِیحافًا: جلدی کرنا۔

۳۔ وَحِفَ یَوْحَفُ وَحَفًا و وَحُفَ یَوْحُفُ وَحَافَةً و وُحُوفَةً الشَّعَرُ او النباتُ: بالوں کا یا نباتات کا گھنا ہونا۔ الواحِفُ مِنَ الأَجْنِحَةِ: گنجان بالوں والا بازو۔ الوَحْفُ (مص): کالے سیاہ خوبصورت گھنے بال، تازہ گھاس۔ — من الأَجْنِحَةِ: گھنے پروں والا بازو۔ عشبٌ وَحْفٌ: بہت گنجان اور سیاہ گھاس۔ الوَحْف: خوبصورت گھنے بال۔ الوَحْفَةُ جمع وِحاف: سیاہ پتھر، کالی اونچی گول زمین۔ الوَحْفاء جمع وَحَافَی من الأراضی: سیاہ پتھروں والی زمین جو گرم نہ ہو۔

۴۔ الوَحْفَةُ جمع وِحاف: آواز۔ الوَحْفاء جمع وَحَافَی من الاراضی: سرخ زمین۔ بعیرٌ مُوَحَّفٌ: لاغر اونٹ۔

☜ وَحْف: بہ افراط اگنے والے سیاہ بال۔

وحل: ا۔ وَحِلَ یَوْحَلُ وَحَلًا و مَوْحَلًا: کیچڑ میں پڑنا، گرنا۔ وَاحَلَ مُوَاحَلَةً ہٗ: سے کیچڑ میں گرنے یا پڑنے کا مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَاحَلَهُ فَوَحَلَ: اس نے اس سے کیچڑ میں پڑنے کا مقابلہ کیا اور غالب آیا۔ اَوْحَلَہٗ: کو کیچڑ میں گرانا۔ — ہٗ شرًا: کو برائی میں پھنسانا۔ تَوَحَّلَ: کیچڑ میں لتھڑنا۔ ——— واستَوحَلَ المکانُ: جگہ کا کیچڑ والی ہونا۔ الوَحَل: کیچڑ (ردی لفظ) الوَحَل جمع اَوْحَال و وُحُول: کیچڑ۔ الوَحِل: کیچڑ میں لتھڑا ہوا۔ المَوْحِل: کیچڑ والی جگہ، کیچڑ میں گرنا (وَحِل کا اسم)۔

۲۔ اِتَّحَلَ اِتِّحالًا فی یمینه: شرطیہ قسم کھانا، قسم میں استثنا کرنا۔ جیسے کہے: واللّٰه افعل ذلك ان شاءَ اللّٰهُ تعالی: خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔

☜ وَحَلَ یَرحَلُ وَحَلًا: دلدل میں پھنسنا، کیچڑ میں پھنسنا، پھنسنا، یکتا و تنہا یا بے یار و مددگار رہنا، بندگلی میں آ جانا، مشکل میں ہونا۔ وَحَّلَ ہٗ: کو کیچڑ سے گندا کرنا، لتھیڑنا، کو کیچڑ سے خراب کرنا۔ — زمین کا کیچڑ والا ہو جانا، کیچڑ سے بھرا ہوا یا لتھڑا ہوا ہو جانا، گندا یا غلیظ ہو جانا۔ اَوْحَلَ ہٗ: کو دلدل میں پھنسانا، کیچڑ میں آلودہ کرنا، کیچڑ میں پھنسانا، مصیبت میں پھنسانا، کو کیچڑ میں گرانا۔ تَوَحَّلَ: گندا ہونا یا ہو جانا، کیچڑ والا ہونا یا ہو جانا، کیچڑ میں لت پت ہونا یا ہو جانا۔ اِستَوحَلَ: بمعنی تَوَحَّلَ۔ وَحْل و وَحَل جمع وُحُول و اَوْحال: کیچڑ، دلدل، غلاظت، دلدلی زمین، دھنس۔ وَحِل: کیچڑ سے بھرا یا لتھڑا ہوا، گندہ، غلیظ، کیچڑ میں لت پت، دلدلی۔ مَوحِل: کیچڑ والی زمین، کیچڑ پانی والی جگہ، مشکل، پریشانی، ناگوار صورت حال، خطرناک صورت۔ مُوَحَّل: کیچڑ والا، گدلا، کیچڑ میں لت پت، یا ڈھکا ہوا، میلا، گندہ، غلیظ، کیچڑ سے بھرا ہوا۔

وحم: ا۔ وَحِمَ یَحِمُ و یَوْحَمُ وَحَمًا الشیءَ: کی خواہش کرنا۔ ——— ت المرأةُ: حاملہ عورت کا بعض چیزوں کے کھانے کا خواہش مند ہونا، اس کی خواہش کا بدلنا یا کھانے کی خواہش کم ہونا صفت: وَحْمَی جمع وِحَام وَحَامَی۔ وَحْمَی و لاحَبَلَ: یہ مثل اس لالچی شخص کے لئے بولتے ہیں جو بغیر ضرورت و حاجت کے سوال کرنے کا بہت عادی ہو۔ وَحَمْتُ وَحْمَهٗ: میں نے اس کا قصد کیا۔ وَحَّمَ الحُبْلَی: حاملہ کو اس کی خواہش کی چیزیں کھلانا۔ — لَهَا: حاملہ کی خواہش کے مطابق کوئی جانور ذبح کرنا یا اس کی خواہش کی چیز پیش کرنا۔ تَوَحَّمَتِ المرأةُ: بمعنی وَحِمَت۔ الوَحَم (مص): حاملہ عورت کی خواہش۔ الوِحَام و الوَحام: حاملہ کی خواہش۔

۲۔ الوَحَمُ: پرندے کے اڑنے کی آواز۔ لیلةٌ ذاتُ وَحَم: بہت گرم رات۔ الوَحِیم: سخت گرم دن۔

☜ وَحِمَ یَحِمُ و یَوْحَمُ وَحَمًا ہٗ: کی بھوک محسوس کرنا۔ — ہٗ: کی سخت آرزو یا کی خواہش محسوس کرنا، کی طلب محسوس کرنا۔ وَحَم: حمل کے دوران کسی خوراک کی طلب، اشتہا، بھوک، خواہش، ارزو، سرگرم خواہش۔ وَحَام و وِحام: بمعنی وَحَم۔ وَحْمَی جمع وِحَام و وَحَامَی: حاملہ کی کسی خاص خوراک کی طلب۔

وحن: وَحَنَ یَحِنُ و وَحِنَ یَوْحَنُ وَحْنًا و حِنَةً علی فلان: سے کینہ رکھنا۔ تَوَحَّنَ: ذلیل ہونا، ہلاک ہونا، بڑے پیٹ والا ہونا۔ الوَحْنَةُ: ایک بار، پھسلانے والی کیچڑ۔

☜ وَحْوَحَ وَحْوَحَةً من: سے یا کے ساتھ، کانپنا، لرزنا، تھرانا، لڑکھڑانا، رعشہ طاری ہونا، کپکپانا، تھرتھرانا، سرسرانا، وحشت ہونا۔

وحی: ا۔ وَحَی یَحِی وَحْیًا اِلَی فلان: کو اشارہ کرنا، کی طرف پیغام بر بھیجنا۔ — الیه او وَحَی الیه کلامًا: سے پوشیدہ بات کہنا، سے مخفی طور پر باتیں کرنا۔ — اللّٰهُ فی قلبه کذا: خدا کا کسی کے دل میں کچھ ڈالنا۔ — الکتابَ: کتاب لکھنا۔ اَوْحَی اِیحَاءً اِلَی فلان: کو اشارہ کرنا، سے دوسروں سے چھپا کر بات کرنا، کو برانگیختہ کرنا۔ — القومَ: چلانا۔ — اللّٰهُ الیه بکذا: کو کا الہام کرنا۔ ——— الکتابَ: کتاب لکھنا۔ ——— نفسهُ: کے دل میں خوف واقع ہونا۔ اِستَوحَی ہٗ: کو پکارنا۔ ——— ہٗ الشیءَ: سے کچھ پوچھنا۔ الواحِی جمع وَاحُون و وُحاة (فا)۔ الوَحْی (مص): الہام، انبیاء کی وحی، الہام کردہ بات، لکھا ہوا، پیغام۔ — والوَحَاة: آواز۔ الوَحَی جمع وُحِیّ: آواز۔

۲۔ وَحَی یَحِی وَحْیًا الذبیحةَ: جانور کو جلدی ذبح کرنا۔ ——— وَحْیًا و وَحًی و وَحَاءً: جلدی کرنا۔ وَحَّی تَوحِیَةً ذبیحتَهٗ: ذبیحہ کو جلدی ذبح کرنا۔ — ہٗ: کو جلدی کرانا۔ کہا جاتا ہے: وَحَّی الدواءُ الموتَ: دوا کا موت کو جلدی واقع کرنا۔ اَوْحَی اِیحاءً العملَ: کام میں جلدی کرنا۔ ——— الدواءُ الموتَ: دوا کا موت کو جلدی واقع کرنا۔ تَوَحَّی: جلدی کرنا۔ تَوَاحَی تَوَاحِیًا القومُ: ایک دوسرے کو جلدی کرانا۔ اِستَوحَاہٗ: کو جلدی کرنا۔ الوَحَی جمع وُحِیّ: جلدی، عجلت۔ کہا جاتا ہے: الوَحَی الوَحَی اور الوَحَاكَ الوَحَاكَ: جلدی کرو، جلدی کرو۔ الوَحِیُّ: بہت جلدی۔ کہا جاتا ہے: موتٌ وَحِیٌّ: جلدی کی موت۔ ذکاةٌ وَحِیَّةٌ۔ الاَوْحَی: زیادہ جلد، زیادہ تیز۔ کہا جاتا ہے: القتلُ بالسیفِ اَوْحَی: تلوار سے قتل زیادہ تیز یا جلد ہوتا ہے۔

۳۔ اَوْحَی ایحاءً الرجلُ: محتاجی کے بعد بادشاہ ہونا۔ الوَحَی جمع وُحِیّ: آگ، بادشاہ، بڑا سردار۔

☜ وَحَی یَحِی وَحْیًا اِلَی ب: کے دل میں کوئی بات ڈالنا، کو کا فیضان کرنا، کو کی وحی کرنا، کو کام الہام کرنا، کو کا القاء کرنا۔ اَوْحَی اِلَی ب: کے دل میں کوئی بات ڈالنا، کو کا فیضان کرنا، کو کی وحی کرنا (خدا تعالیٰ کا)۔ —— من: کا خیال دینا، کا تاثر دینا۔ — اَن: تجویز پیش کرنا کہ، کی تجویز پیش کرنا، کا خیال دلانا، کا ایما ظاہر کرنا، تاثر پیدا کرنا کہ، گویا کہ۔ اَوْحِیَ اِلَیَّ: میرے دل میں آیا، مجھے خیال آیا، میں نے سوچا۔ اِستَوحَی ہٗ: کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مشورہ طلب کرنا، کی رائے پوچھنا، سے مشورہ کرنا۔ — ہ ہ: دل میں بات کی طرف سے ڈالی جانا، کسی بات میں (نیک خیال، الہام القاء، تخلیقی تحریک) کسی سے طلب کرنا۔ — ہ من: کچھ کسی سے حاصل کرنا، کو سے استخراج کرنا، استنباط کرنا، کسی بات کا سے نتیجہ نکالنا یا اخذ کرنا۔ استوحی الفکرۃَ: خیال سے رہنمائی حاصل کرنا۔ استوحی موعظۃً من: سے سبق لینا۔ وَحْی: تخلیقی تحریک، نیک خیال، وحی، الہام، القاء۔ اِیحاء: اشارہ، ایہام، ایما۔ ایحاءٌ ذاتیٌّ: خود ایمائی۔ واحٍ: ریڈیو ٹرانسمیٹر۔ الواحی: ریڈیو۔ مُوحٍ: دل میں القاء کرنے والا، وحی کرنے والا۔ مُوحًی جمع مُوحَیات: تخلیقی تحریک، نیک خیال، وحی، الہام، القاء۔ مُسْتَوحًی من: کی طرف سے اثر ڈالا ہوا، اثر انداز، نیک خیالی، تخلیقی تحریک ڈالا ہوا، الہام القاء کیا ہوا، سے نتیجہ اخذ کیا ہوا، استخراج یا استنباط کیا ہوا۔

وخد: وَخَدَ یَخِدُ وَخْداً و وَخِیداً و وَخَدَاناً البعیرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا، شترمرغ کی طرح لمبے قدم ڈالنا۔ صفت: وَاخِد و وَخُود و وَخّاد۔ الوَخْد جمع وُخُود: اونٹ کی تیز دوڑ۔

وخز: وَخَزَ یَخِزُ وَخْزاً ہُ: کو سوئی یا نیزہ وغیرہ چبھونا۔ — ہ الشیبُ: کے سر میں سفید بال ظاہر ہونا۔ سر کے بالوں کا کھچڑی ہونا۔ — فلانٌ: شہد کا ثرید بنانا۔ الوَخْز (مص): ہر چیز کی تھوڑی مقدار۔ کہا جاتا ہے: جاء وا وَخْزاً وَخْزاً: وہ چار چار کر کے آئے۔ الوَخِیز: شہد کا ثرید۔

ⓒ وَخَزَ یَخِزُ وَخْزاً ہُ: کو ڈنک مارنا، میں چبھن پیدا کرنا، کو چبھونا، کو چیر کر، چھید کر یا چاقو وغیرہ گھونپ کر مارنا، کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، کا ناک میں دم کرنا، کو ستانا، زچ کرنا۔ وَخْزۃ: ڈنک، چھید، چبھن، ٹیس۔ وَخْز: ڈنک مارنا، چبھونا، مقامی تیز تکلیف ٹیسیں۔ وخزُ الضمیر: پشیمانیاں، ندامتیں، ندامت یا پشیمانی کی ٹیسیں۔ وَخّازان: مارے طعنوں کے ناک میں دم کرنا، ہر وقت جھاڑ جھپاڑ کرتے رہنا۔ وَخّاز: ڈنک مارنے والا، چبھونے والا، دانت سے کاٹنے والا تیز، چبھتا ہوا، درد کرنے والا، سخت، شدید تشدد آمیز۔ واخِز: بمعنی وَخّاز۔

وخش: وَخُشَ یَوْخُشُ وُخُوشۃً و وَخاشۃً و وُخُوشاً الشیءُ: رذیل وردی اور نکما ہونا۔ — رأسُ الکبش: مینڈھے کے سر کا سوکھنا اور سکڑنا۔ وَخَّشَ العطیۃَ: بخشش کم دینا۔ — الشیءَ: کو نکما اور ردی کرنا۔ اَوْخَشَ الشیءَ: کو خلط ملط کرنا۔ — لہ بالعطیۃ: کو عطیہ کم دینا۔ — فی عرضہ: کی بے عزتی کرنا۔ الوَخْش: ہر ردی چیز، کمینے رذیل لوگ (مفرد جمع مذکر اور مونث میں یکساں مستعمل) کبھی جمع وِخاش اور اَوْخاش بھی آجاتی ہے۔ — عند العامۃ: کھردرا۔

وخص: وَخَصَ یَخِصُ وُخُوصاً: حرکت کرنا۔ اَوْخَصَ اِیخاصاً فلانٌ لی بعطیۃ: (فلاں کا مجھے تھوڑا اعطیہ دینا۔)

وخص: وَخَصَ یَخِصُ وَخْصًا فلاناً بالرمح: کو نیزہ چبھونا۔ — ہُ الشیبُ: بڑھاپے کا سر میں سفیدی ظاہر کرنا۔ بڑھاپے کا سر کے بالوں کو کھچڑی کر دینا۔ الوَخِیص: نیزہ زدہ۔

وخط: ۱۔ وَخَطَ یَخِطُ وَخْطًا فلاناً بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ — ہُ بالسیف: کو دور سے تلوار سے کوچنا لینا۔ الوَخّاط: تیز اور کشادہ قدموں سے چلنے والا شترمرغ یا اونٹ۔ طعنٌ او رمحٌ وَخّاط: پار ہونے والا نیزہ۔ المِیخَط: داخل ہونے والا۔

۲۔ وَخَطَ یَخِطُ وَخْطاً ہُ الشیبُ: کے سر کے بالوں کا کھچڑی ہونا۔ — فی البیع: تجارت میں کبھی نفع اور کبھی نقصان اٹھانا۔ وُخِطَ: سر کے بالوں کا کھچڑی ہونا۔

ⓒ وَخَطَ یَخِطُ وَخَطاۃً: عمر کا کے بالوں کو کھچڑی کرنا۔

وخف: ۱۔ وَخَفَ یَخِفُ وَخْفاً السویقَ: ستو کو پانی ڈال کر لیسدار کرنا، گوندھنا۔ — السویقُ: ستو کا لیس دار ہونا۔ — الرجلَ: کو برائی سے یاد کرنا۔ وَخَفَ و اَوْخَفَ السویقَ: ستو کو پانی ڈال کر گوندھنا اور لیس دار کرنا۔ انہٗ لیوخِفُ فی الطین: یہ ضرب المثل اس بیوقوف کے بارے میں بولی جاتی ہے جو خود اپنی بات کو نہ سمجھے۔ الوَخْفۃ: ایک بار، چمڑے کا تھیلا۔ الوَخِیفۃ: گندھا ہوا ستو وغیرہ۔ المُوخِف: بے وقوف۔ المِیخَف: ستو بھگونے کا برتن۔

۲۔ اِنْخَفَتْ رِجْلُہٗ: کا پاؤں پھسلنا۔

وخم: وَخَمَ یَخِمُ وَخْماً ہُ: سے زیادہ بدہضمی والا ہونا۔ وَخِمَ یَوْخَمُ وَخَماً و اِتَّخَمَ من کذا و عنہ: سے بدہضمی ہونا۔ وَخُمَ یَوْخُمُ وَخامۃً و وُخُومۃً و وُخُوماً المکانُ او الطعامُ: کسی جگہ کا مضر صحت ہونا یا کھانے کا ناقابل ہضم ہونا۔ وَخَّمَ الشیءَ: کو مضر صحت بنانا۔ وَاخَمَ مُواخَمۃً ہُ فوخمہٗ: سے بدہضمی میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب [illegible] بدہضمی والا [illegible] اَتْخَمَ اِتْخاماً ہُ الطعامُ: کو کھانے کا بدہضمی میں مبتلا کرنا۔ (اصل میں اَوْخَمَہٗ ہے لیکن اصل کا استعمال نادر ہے)۔ تَوَخَّمَ الطعامَ: کھانے کو مضر صحت سمجھنا۔ اِسْتَوْخَمَ الطعامَ: کھانے کو مضر صحت سمجھنا۔ — المکانَ: جگہ کی آب و ہوا کا اس کے لئے موافق نہ ہونا، جگہ کو مضر صحت پانا۔ الوَخْم جمع اَوْخام مِن الرجال: ست آدمی۔ الوَخِم جمع اَوْخام من الرجال: ست آدمی۔ شیءٌ وَخْمٌ و وَخِمٌ: وبازدہ چیز۔ الوَخَم (طب): بواسیر کی مانند ایک بیماری، ہوا کا متعفن ہونا جس سے وبا پھیلے، ضرر سے استعارہ ہے۔ — عند العامۃ: پست زمین سے کنایہ ہے۔ ارضٌ وَخْمۃٌ و وَخِمۃٌ و وَخام: مضر صحت گھاس والی زمین، وباء سے متاثر زمین۔ الوَخُوم من الرجال جمع وَخامَی و وِخام: کثیف، بھاری آدمی۔ ارضٌ وَخُوم: مضر صحت گھاس والی زمین، وباء سے متاثر زمین۔ الوَخِیم من الرجال جمع وَخامَی و وِخام: کثیف ثقیل آدمی۔ بلدٌ وَخِیمٌ: رہائش کے لئے ناموافق شہر۔ شیءٌ وَخِیمٌ: وباء زدہ چیز۔ امرٌ وخیمُ العاقبۃ: بدانجام کام۔ ارضٌ وَخِیمۃٌ: مضر صحت گھاس والی زمین، وباء سے متاثر زمین۔ التُّخَمۃ جمع تُخَمات و تُخَم: بدہضمی (اصل میں وُخَمۃ ہے)۔ ارضٌ مَوْخِمۃٌ و مَوْخَمۃٌ و مُوخِمۃ: مضر صحت گھاس والی زمین، وباء سے متاثر زمین۔ کہا جاتا ہے: ھذا الطعام مَتْخَمۃ: اس کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے (اصل میں مَوْخَمۃ ہے)۔

ⓒ وَخَمَ یَوْخُمُ وَخامۃً: (ہوا، آب و ہوا کا) مضر صحت ہونا، ناخوشگوار، بھاری، اور ناقابل ہضم ہونا۔ وَخِمَ یَوْخَمُ وَخَماً: بدہضمی ہونا، بدہضمی میں مبتلا ہونا۔ اِتَّخَمَ: بدہضمی میں مبتلا ہونا۔ تُخَمۃ جمع تُخَمات و تُخَم: پرخوری، پرخوری کے باعث گرانی، بدہضمی، گڑبڑ والا پیٹ۔ وَخَم: مضر صحت ہوا، گندگی، غلاظت۔ وَخِم: مضر صحت، ناخوشگوار، بھاری، ناقابل ہضم، گندہ، غلیظ، گھناؤنا۔ وَخِیم: مضر صحت، ناقابل ہضم، برا، بد، خطرناک، مہلک، مصیبت خیز، آفت خیز۔ وَخِیمُ العاقبۃ: برے انجام والا۔ وَخامۃ: مضر صحت ہونا، ناخوشگوار ہونا، بری خصلت۔ اَوْخَم: زیادہ مضر صحت، زیادہ خراب۔ مُسْتَوْخَم: ناقابل ہضم، ناخوشگوار۔ مَجازٌ مُسْتَوْخَم: بے لطف یا بدذوق کنایہ، استعارہ، مجاز یا تشبیہ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وخن: تَوَخَّنَ ارادہ کرنا (اچھائی یا برائی کا)۔ الوَخْنَة فساد۔

وخی ا۔ وَخَی یَخِی وَخْیًا الأمرَ کام کا قصد کرنا۔ ۔۔ ت الناقۃُ اونٹنی کا درمیانی چال چلنا۔ وَخَی وَخْیَہ اس نے اس کا قصد کیا۔ ما ادری این وَخَی میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔ وَخَّی الأمرَ کو امر کو کیلئے طلب کرنا۔ ۔ ذ للامر کو کسی کام کے لئے بھیجنا۔ تَوَخَّی تَوَخِّیاً و تَأَخَّی تَأَخِّیاً الامرَ کا قصد کرنا، کو طلب کرنا۔ اِستَوخَی القومَ سے خبر دریافت کرنا۔ الوَخْی (مص) جمع وُخِیّ و وِخِیّ: قصد، ارادہ، قابل اعتماد راستہ۔ ارادہ کرنے والا الوَخِی و الخِیَۃ قصد، ارادہ۔

۲۔ وَاخَی مُوَاخَاۃً فلاناً سے بھائی چارہ کرنا (آخاہ کے مقابل کمزور لغت ہے)۔

○ وَخَی یَخِی وَخْیاً ہ کا ارادہ کرنا، کی غرض ہونا، کوئی کرنے کا ارادہ ہونا، کو کرنے کی غرض ہونا، کو پیش نظر رکھنا، کا مقصد یا نصب العین ہونا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، پر تلا ہونا۔ وَخَّی (بمعنی وَخَی۔) ۔ ہُ کی رہنمائی کرنا۔ تَوَخَّی ہ کا ارادہ کرنا، کو کرنے کا ارادہ کرنا، کو پیش نظر رکھنا، نصب العین ہونا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، کے لئے جدوجہد کرنا، پر تلا ہونا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا۔ تَوَخِّی طریقۃً کسی طریقہ پر عمل کرنا، کو بااصول یا باقاعدہ طور پر کرتے رہنا۔ تَوَخِّی غایۃً ذہن میں ایک مقصد رکھنا، کسی مقصد کو کرتے رہنا۔ وَخْی جمع وُخِیّ و وخی: ارادہ، مقصد، منصوبہ۔ تَوَخٍّ: مقصد، منصوبہ، منشا، مطلب، نیت مراد۔

ود: وَدَّ یَوَدُّ وَدًّا و وُدًّا و وِدًّا و وَدَادًا و وُدَادًا و وِدَادًا و وَدَادَۃً و مَوَدَّۃً و مَوَدِدَۃً و مَوْدُودَۃً ہُ: سے محبت کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَدِدْتُ لو کان کذا و لو انک فعلتَ کذا: میری تمنا ہے کہ ایسا ہوتا یا تم ایسا کرتے۔ اس جگہ "لو" موصول حرفی ہے۔ وَادَّ وِدَاداً و مُوَادَّۃً ہُ: کو دوست بنانا، کا دوست بننا۔ تَوَدَّدَہُ: کی دوستی چاہنا، کی دوستی حاصل کرنا۔ ۔ الیہ: سے دوستی کرنا۔ تَوَادَّ الرجلان: ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ الوَدّ و الوُدّ و الوِدّ: محبت (کہا جاتا ہے: بوُدّی أن یکون کذا: میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو۔ بِوُدّی افعل کذا: عام لوگ کہتے ہیں: میں ایسا کرنا چاہتا ہوں)۔ ۔۔ جمع أوْداد و أوُدّ و أوِدّ: محبت کرنے والا یا بہت محبت کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: ہو وُدُّک و ہم أوْدادُک وہ تجھ کو چاہنے والا ہے وہ تجھے چاہنے والے ہیں۔ الوِدّ (بتثلیث الواو) اسم جمع کے طور پر بھی آتا ہے، محبین کے معنی میں۔ جیسے: قومٌ وِدّ (محبت کرنے والے لوگ)۔ الوَدُود بہت محبت کرنے والا، محبوب۔ آپ کہتے ہیں: ہو وَدُود و ہِیَ وَدُود۔ الوَدِید جمع أوِدَّۃ و أوِدّاء محبت کرنے والا۔ الودید اسم جمع بھی آتا ہے بمعنی محبین۔ الأوَدُّ جمع الأوَدُّون اسم تفضیل۔ المِوَدّ بہت محبت کرنے والا۔

○ وَدَّ (متکلم وَدِدْتُ)۔ وَدًّا و وُدًّا و وِدًّا و وَدَادًا و وُدَادًا و مَوَدَّۃً ہ/ہ سے محبت کرنا، کو پسند کرنا، کا شائق ہونا۔ ۔۔ ہ/أن/لو/لو أن: میں چاہتا ہوں یا میری خواہش ہے کہ وہ (چیز وغیرہ) ہو۔ أوَدُّ أن یفعلَ ذلک: میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کرے۔ کما یوَدُّ: جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے۔ وددتُ لو کان غنیا میری تمنا ہے کہ وہ امیر ہوتا۔ وَدَّ نفسَہُ بعیداً عن: کسی کا خواہش کرنا کہ وہ سے بہت دور ہو جائے۔ وَادَّہُ: کو دوست بنانا، کا دوست بن جانا۔ تَوَدَّدَ ل/الی: سے محبت ظاہر کرنا، سے شفقت چاہ یا لگن کا مظاہرہ کرنا۔ ۔۔ الی کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کی دوستی کا طالب ہونا، کی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا۔ ۔ ہ کو موہنا، لبھانا، رجھانا، گرویدہ کرنا، فریفتہ کرنا، کی محبت یا دوستی جیت لینا۔ تَوَادَّ ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کا دوست ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ مراسم ہونا۔ وَدّ و وِدّ و وُدّ: محبت، شفقت، چاہ، لگن، پیار، دوستی، میل جول، ارتباط، خواہش، آرزو، تمنا۔ کان بوِدِّنا لو: ہمیں خوشی ہوگی اگر۔ ۔ جمع أوْداد و أوُدّ و أوِدّ: محبت کرنے والا، پیارا، محب، محبت آمیز، شائق، عاشق، لگاؤ رکھنے والا، جاں نثار، وفادار، وفا شعار، وقف وفا۔ وَدِّی و وِدِّی و وُدِّی: دوستانہ۔ وَدَاد و وِداد و وُداد: محبت، دوستی۔ وَدَادِی: دوستانہ، دوست کا۔ وَدُود لطف و کرم سے مددگار، لگاؤ رکھنے والا، وفا شعار، دوستانہ۔ وَدِید: بمعنی وَدُود۔ مَوَدَّۃ: محبت، دوستی۔ تَوادّ: دوستانہ تعلقات، اچھے مراسم۔

ودأ: وَدَأ یَدَأ وَدْأً الشیءَ: کو ہموار کرنا، برابر کرنا۔ ۔۔ بالقوم: سے بدسلوکی کرنا۔ وَدِیءَ یَوْدَأ وَدَأً: منقطع ہونا۔ کہا جاتا ہے: وَدِئَتِ الاخبارُ عنہ: خبریں اس سے منقطع ہو گئیں۔ وَدَّأ تودیئاً و تَوْدِئَۃً علیہ الأرضَ: زمین کو کسی پر ہموار کرنا، کو دفن کرنا۔ ۔ علیہ و بہ: کو ہلاک کرنا۔ ۔ تہ الأرضُ: زمین کا کسی کو چھپا لینا۔ تَوَدَّأَ علیہ کو ہلاک کرنا۔ ۔۔ ت علیہ الارضُ: کے اوپر زمین کا گر کر اس طرح ہموار ہو جانا جیسے مردہ پر ہموار ہو جاتی ہے۔ ۔۔ ت علیہ و عنہ الأخبارُ: پر خبروں کا آنا بند ہو جانا۔ ۔۔ الرجلُ: مرنا۔ ۔۔ فلانٌ علی مالِہِ: مال لینا اور جمع کرنا۔ الوَدْأ (مص) ہلاکت۔ التَّوْدِئَۃ (مص) دفن (کرنا)۔ المُوَدَّأۃ: ہلاکت، بے آب ریگستان، میت کا گڑھا یا قبر۔

ودب: الوَدْب زبوں حالی، بدحالی۔ ہو علی وَدْبٍ: وہ بری حالت میں ہے۔

ودج: وَدَجَ یَدِجُ وَدْجًا و وَدَّجَ الدابّۃَ جانور کی گردن کی رگ کاٹنا۔ ۔۔ بین القوم قوم کے معاملات کی اصلاح کرنا اور شر و فساد دور کرنا۔ وَادَجَ مُوَادَجَۃً ہُ: سے صلح کرنا، نرمی و آشتی سے پیش آنا۔ الوَدَج جمع أوْداج (ع ا): گردن کی رگ جو غصہ میں پھول جاتی ہے اور وہ رگ جو ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہے، وسیلہ، سبب۔ کہا جاتا ہے: کان فلانٌ وَدَجِی الی کذا: فلاں شخص فلاں فلاں کے ساتھ میرا سبب اور وسیلہ تھا۔ الوَدَجان: دو بھائی۔ بئس وَدَجا حربٍ ھُما: وہ دونوں جنگ کے دو برے بھائی ہیں۔ الوِداج (ع ا): غصہ کے وقت پھولنے والی گردن کی رگ۔ یہ دو ہیں۔

○ وَدَج جمع أوْداج: رگ گردن۔ انتفخت أوداجُہ: اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں یعنی وہ طیش میں آ گیا یہ اس معنی میں بھی آتا ہے: وہ بہت مغرور ہو گیا، اس نے زبان درازی کی، اس نے تحکمانہ انداز اختیار کیا، وہ اینٹھ کر چلا۔ وِداج: رگ گردن۔

ودر: وَدَرَ یَدِرُ وَدْراً: مستی سے بیہوشی کے قریب پہنچ جانا۔ ۔۔ الشیءَ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ آپ کہتے ہیں: دِرْ وَجْہَکَ عَنّی: اپنا چہرہ مجھ سے ہٹاؤ اور دور کرو۔ وَدَّرَہُ: کو اکسا کر خطرہ میں ڈالنا۔ ۔۔ الرسولَ: پیغامبر بھیجنا۔ ۔ الشیءَ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ ۔ المالَ: مال میں فضول خرچی کرنا۔ ۔ الرجلَ: کو گمراہ کرنا۔ تَوَدَّرَ: فضول خرچ ہونا۔ ۔۔ فی الأمرِ: میں پڑنا، ملوث ہونا۔ ۔ ہ کو ہلاکت میں ڈالنا۔

○ وَدَّرَہُ: کو خطرہ میں ڈالنا۔ ۔۔ ہ کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اُجاڑنا، اُڑانا۔

ودس: ا۔ وَدَسَ یَدِسُ وَدْسًا علی الشیءِ: سے پوشیدہ ہونا۔ ۔ الیہ بکلام: سے ادھوری بات کرنا۔ ۔۔ بالشیءِ: کو چھپانا۔ ۔۔ الرجلُ: جانا۔ ۔۔ المکانُ: جگہ کا نباتات سے ڈھکا ہونا، جگہ کا بہت نباتات

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

والا ہونا، ہریادل والا ہونا۔وَدَّسَ الشیءُ: پوشیدہ
ہونا۔ـ المکانُ: جگہ کا ہریاول والا ہونا۔ـ تِ
الماشیۃُ: مویشی کا ہریالی چرنا۔ـ الیہ بکلمۃ: کو
کوئی بات پیش کرنا۔اَوْدَسَتِ الأرضُ: زمین کا
اس قدر سبزہ اُگانا کہ زمین ڈھک جائے۔تَوَدَّسَ
المکانُ: جگہ کا ہریالی والا ہونا۔الوَادِس والوِداس:
زمین کی سطح کو ڈھکنے والی نباتات۔الوَدَس: زمین کی
سطح کو ڈھکنے والی نباتات، عیب۔الوَدِیس: خشک
نباتات۔اَرضٌ مَوْدُوسَۃٌ: کم روئیدگی والی زمین۔
۲۔الوَدِیس: پتلا شہد۔

ودص. وَدَصَ یَدِصُ وَدْصًا الیہ بکلام: سے ادھوری
بات کہنا۔

ودع. وَدَعَ یَدَعُ وَدْعًا الشیءَ: کو چھوڑ دینا۔ـ
مالاً عندہ: کے پاس مال ودیعت کے طور پر چھوڑنا۔
ـ الثوبَ بالثوبِ: کپڑے کو کپڑے سے محفوظ
کرنا۔ـ الشیءُ: ٹھہرنا (اس فعل کے مصدر اور ماضی
کا استعمال قلیل ہے)۔ـ المسافرُ الناسَ: مسافر
کا لوگوں کو عیش و آرام میں چھوڑنا۔وَدَعَوہُ: انہوں
نے اس کے لئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو
آسان کرے اور عیش و آرام میں رکھے۔ـ وَدُعَ
یَوْدُعُ وَدَاعَۃً الرجُلُ: مطمئن ہونا صفت۔وَدِیع
و وَادِع۔ وَدَّعَ الثوبَ فی صوان و نحوہ:
کپڑوں کو الماری وغیرہ میں رکھ کر محفوظ کرنا۔
المسافرُ القومَ: مسافر کا لوگوں کو عیش و آرام میں
چھوڑنا۔ـ القومُ المسافرَ: لوگوں کا مسافر کو
رخصت کرنا۔ـ فلاناً: کو چھوڑنا۔ـ الصبیَّ او
الکلبَ: بچے یا کتے کی گردن میں کوڑی ڈالنا۔ـ
فرسَہُ: گھوڑے کو خوشحال رکھنا۔وَادَعَ مُوَادَعَۃً و
وِدَاعًا ہ: سے دشمنی چھوڑ کر صلح کرنا۔اسم البوِداع
اَوْدَعَہُ الشیءَ: کے پاس کوئی چیز امانت رکھنا۔ـ ہُ
السرَّ: سے بھید کہنا اور اس کو راز میں رکھنے کے لئے
کہنا۔ـ کتابَہُ کذا: خط میں ایسا لکھنا۔ـ الکلامَ
معنی حسناً: کلام میں عمدہ معنی کی تضمین کرنا۔کہا
جاتا ہے اَوْدَعْتُہُ مالاً: میں نے اس سے مال قبول
کیا تا کہ وہ میرے پاس امانت رہے۔تَوَدَّعَ الثوبَ:
کپڑے کو محفوظ کرنا۔ـ فلاناً: کو اپنی حاجت میں
مشغول کرنا۔ـ القومُ: بعض کا بعض کو رخصت کرنا۔
تَوَادَعَ القومُ: لوگوں کا آپس میں صلح کرنا، ایک
دوسرے کو رخصت کرنا۔اِتَّدَعَ: آرام کرنا، قرار پکڑنا،
تن آسان ہونا۔اِسْتَوْدَعَ فلاناً مالاً: کے پاس مال
امانت کے طور پر رکھنا۔الدَّعَۃ والتُّدْعَۃ و التَّدَعَۃ

والتَّداعَۃ: سکون، راحت، عیش و آرام۔المَوْدُع
(مص) جمع وُدُوع: قبر۔ـ والوَدَع واحد
وَدْعۃ و وَدَعَۃ جمع وَدَعات: گھونگا، کوڑی۔
الوَدَاع: الوداع، مسافر کو رخصت کرنا، الکلی (alkali)
الوَدَاعۃ (وَدُعَ کا مصدر): سکون، حلم، بردباری۔
الوَدِیع جمع وُدَعاء: چپ چاپ، پرسکون، مقبرہ،
عہد نامہ۔الوَدِیعۃ جمع وَدَائِع: امانت (کے طور
پر رکھی ہوئی چیز)۔ودیع کا مؤنث۔المُسْتَوْدَع:
حفاظت کی جگہ۔ـ ا): رحمِ مادر۔المُودَع (مفع)
من الخیل: پرسکون، آرام پہنچایا ہوا گھوڑا۔المَوْدُوع:
سکون، حلم، بردباری، وقار۔المِیْدَع جمع
مَوَادِع: کپڑے وغیرہ محفوظ رکھنے کی چیز، پرانا کپڑا۔
کلام مِیْدَع: رنج دہ گفتگو۔المِیْدَعَۃ: کپڑے
وغیرہ کا محفوظ رکھنے کی الماری یا اس قسم کی کوئی اور چیز
پرانا کپڑا۔المِیداعَۃ: آرام پسند آدمی، کپڑے وغیرہ
محفوظ رکھنے کی الماری وغیرہ۔
۲۔الوَدْع جمع وُدُوع: نشانہ۔الاَوْدَع (ح): جنگلی
چوہا۔

وَدَعَ یَدَعُ وَدْعاً ہ: کو تہ نشین کرنا رکھنا، کو پیوست
کرنا، کو دھرنا (صرف اسم اور فعل جاری میں ہے) کو
چھوڑنا کو کرنے دینا، رکنا، چھوڑنا، سے باز رہنا۔ـ ہ
الی: کو کچھ اور بننے کے لئے چھوڑ دینا، نہ کرنا، کو چھوڑ
کر (دوسرے) کی طرف جانا۔دَعْ عنك: رک جا،
باز رہ۔دَعْ عنك دَعْكَ مِن: اس کا تو ذکر ہی کیا۔
دَعْكَ مِن هذا: اسے ختم کرو، کو کاٹ کر نکال دو، دور
کرو۔دَعْنا من هذا: ہمیں چاہیے کہ اس کے
بارے میں کچھ نہ کہیں، بس بس، اب خاموش رہیں۔
دَعْنا نذهب: آؤ چلیں۔یَدَعُ مَحَلاً: جگہ یا
گنجائش چھوڑنا۔وَدُعَ یَوْدُعُ وَدَاعَۃً: شریف ہونا،
سلیم الطبع ہونا، بھلا مانس ہونا، معتدل یا نرم دل ہونا،
مہربان حلیم یا شیریں ہونا، نرم مزاج ہونا، منسکر المزاج
ہونا، صلح پسند ہونا، امن خواہ ہونا، صلح جو ہونا، امن پسند
ہونا۔وَدَّعَ ہ: کو چھوڑنے جانا، کی مشایعت کرنا، کو خدا
حافظ کہنا، کو الوداع کہنا، سے رخصت ہونا۔اَوْدَعَ
ہ ہ/ہ: کو میں رکھنا۔ـ ہ ہ: کو میں حفاظت سے
رکھنا، حفاظت کے لئے رکھنا۔ـ ہ ہ: کو کوئی چیز سپرد
کرنا، کو کے پاس چھوڑنا، کو کوئی چیز حفاظت سے رکھنے
کے لئے دینا۔ـ ہ ہ: کو کے سپرد کرنا، کو کی تحویل میں
دینا۔ـ ہ ہ: کوئی چیز (بذریعہ ریل وغیرہ) بھیجنا۔
اَوْدَعَہُ السجنَ: کو جیل میں ڈالنا۔اِسْتَوْدَعَ ہ
ہ: کو ... رکھنا، جمع کرانا۔ـ ...

بھیجنا، کی تحویل میں کوئی چیز دینا۔ـ ہ ہ: کو کے پاس
چھوڑنا۔ـ ہ ہ: کو کوئی چیز دینا حفاظت میں رکھنے
کے لئے۔ـ ہ ہ: کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا۔ـ ہ: کو
گودام میں رکھنا۔اِسْتَودَعَہُ اللّٰہَ: کو اللہ تعالیٰ کی
حفاظت میں دینا۔اَسْتَودِعُكَ اللّٰہ: الوداع، خدا
حافظ۔دَعَۃ: معتدل مزاجی، نرم دلی، شرافت، شریف
دلی، اطمینان، سکون، دلجمعی۔وَدْع: رکھنا جمع کرنا،
امانت، تحویل، تہ نشینی۔وَدْعٌ و وَدَع: اسم جمع واحد
ودعۃ: گھونگا، صدف، سیپی، خرمہرہ۔وَدَاع:
الوداع، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ کہنا، الوداع
کہنا۔الوَدَاع اور وداعاً: خدا حافظ، فی امان اللہ۔
وَدَاعَۃ: نرم دلی، شرافت، اعتدال، منکسر المزاجی، صلح
پسندی، امن خواہی، صلح جوئی۔وَدِیع: پرسکون، صلح
پسند صلح جو، امن خواہ، شریف دل، معتدل مزاج، منکسر
المزاج، شیریں، نرم دل۔وَدِیعَۃ جمع وَدَائِع:
امانت (جو کسی پاس رکھی جائے) تحویل جمع کرائی ہوئی
رقم، رقم جو بینک میں ایک مدت کے لئے رکھیں، تہ
نشین مادہ۔مِیْدَعَۃ: پیش بند (apron) (ڈاکٹر کا)
لبادہ۔تَودیع: خدا حافظ، رخصت چاہنا، خدا حافظ
کہنا۔اِیداع: رکھنا، بینک وغیرہ میں رکھی ہوئی رقم
وغیرہ، جمع کرانا۔بطاقۃ الایداع: رقم جمع کرانے کی
سلپ یا سرٹیفکیٹ، گرفتاری کا وارنٹ۔مَحْضَرُ
الایداع: تحویل یا سپردگی کی دستاویز۔اِستیداع:
رکھنا، بھیجنا، جمع کرانا، تحویل، محفوظ سرمایہ، کسی اہلکار کو
نصف تنخواہ پر رکھنا، اہلکار کی عارضی ریٹائرمنٹ میں
منتقلی۔فی الاستیداع: عارضی ریٹائرمنٹ پر غیر
وابستہ، نصف تنخواہ پر۔مخزن الاستیداع: ڈپو۔
وَادِع: بھیجنے والا، جمع کرانے والا، حلفیہ اظہار دینے
والا، تحریری شہادت دینے والا، کرایہ دار، کرایہ دار
مہمان، شریف، صلح پسند، معتدل مزاج، صلح جو،
پرسکون، معتدل، نیچا، گہرا۔مُودِع: بھیجنے والا، کرایہ
دار، کرایہ دار مہمان، جمع کرانے والا، شریف، معتدل
مزاج، صلح جو صلح پسند، معتدل، نیچا، گہرا۔مُودَع: رکھا
ہوا، بھیجا ہوا، جمع کرایا ہوا، جمع شدہ رقم۔المُودَع
لدیہ: محافظ، جسے مال بھیجا جائے، مرسل الیہ، وہ جگہ
جہاں مال جمع کرایا جائے۔مُسْتَودِع: بنک میں رقم
جمع کرانے والا۔مُسْتَودَع: رکھا ہوا، بھیجا ہوا، جمع
کرایا ہوا، سٹور کیا ہوا، عارضی ریٹائرمنٹ پر، غیر
وابستہ، نصف تنخواہ پر، ریزور میں۔جمع مُستودَعات:
وہ جگہ جہاں مال جمع کرایا جائے، رکھنے کی محفوظ جگہ،
سٹور ہاؤس، گودام، بڑی دوکان، ڈپو، ہوائی جہازوں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے لئے چھپر (hangar) چیز دان، کنٹینر (container) تالا، خزانۂ آب۔ مُسْتَوْدَعُ التدریب: ٹریننگ سنٹر۔

ودف: ا۔ وَدَفَ يَدِفُ وَدْفاً الشحمُ: چربی پگھلنا، بہنا۔ ۔ الاناءُ: برتن کا ٹپکنا۔ ۔ له العطاءَ: کو بخشش کم دینا۔ تَوَدَّفَ الخبرَ: خبر دریافت کرنا، تلاش کرنا۔ اِسْتَوْدَفَ الخبرَ: خبر تلاش کرنا، دریافت کرنا۔ ۔ الشحمَ: چربی کو ٹپکانا۔ ۔ اللبنَ: دودھ کو برتن میں ڈالنا۔ ۔ معروفَ فلان: کا احسان یا بھلائی مانگنا، بخشش مانگنا۔ الوَدَفَة: چربی۔

۲۔ تَوَدَّفَتِ الأوْعالُ فوق الجبل: بارہ سنگوں کا پہاڑ کی چوٹی سے جھانکنا۔ اِسْتَوْدَفَ فِي الاناء: برتن کا سرا کھول کر اندر دیکھنا۔ ۔ النباتُ: مرغزار، سبزہ کا اونچا ہونا۔ الوِدْفَه والوَدِيفَة: سرسبز باغ۔ الوَدَفَة (ن): ایک قسم کی نباتات جسے نَصِيّ بھی کہا جاتا ہے۔

ودق: ا۔ وَدَقَ يَدِقُ وَدْقاً و وُدُوقاً اليه: کے قریب ہونا۔ ۔ بطنُهُ: پیٹ کا وسیع ہونا یا دست لگنا۔ ۔ به: سے مانوس ہونا۔ ۔ تِ السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ ۔ وَدْقاً المطرُ: بارش کا گرنا۔ ۔ وَدِقَ يَوْدَقُ وَدُقَ يَودُقُ وَدَقاً و وُدْقاً و وُدُوقاً و وِدَاقاً و وَدَقاناً ت ذاتُ الحافر: سم دار مادہ کا جفتی کی خواہش کرنا صفت: وَادِقٌ و وُدُوقٌ و وَدِيق اسم الوِداق۔ اوْدَقَ ت السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ الوَدْق (مص): بارش۔ الوَدِيقَة جمع وَدائِق: سبزہ زار، گرمی کی شدت۔ المَوْدِق: ہرنی وغیرہ کی کھڑے ہونے کی جگہ جہاں وہ درخت تک پہنچ سکے۔

۲۔ وَدُقَ يَيْدَقُ وَدَقَات عينُهُ: کی آنکھ میں سرخ پھنسی ہونا۔ الوَدْقَة والوَدَقة جمع وَدُق و وَدَق: آنکھ کے اندر کی سرخ پھنسی۔ عين وَدِقَةٌ: آنکھ جس کے اندر سرخ پھنسی ہو۔

۳۔ وَدَقَ يَدِقُ وَدْقاً و وُدُوقاً السيفُ: تلوار کا تیز ہونا۔

۴۔ المَوْدِق: گھسان کی جنگ کا میدان، دو چیزوں کے درمیان روک، رکاوٹ۔

◌ وَدِيقة: گھاس کا تختہ، سبزہ زار، مرغزار، لان۔

ودك: وَدِكَ يَودَكُ وَدَكاً: چربی دار اور موٹا ہونا۔ وَدَّكَ الثريدَ: ثرید میں چربی ڈالنا۔ الوَادِك و الوَدِك: موٹا، چربی دار۔ الدِكَةُ: چربی۔ الوَدَك: گوشت اور چربی کی چکناہٹ۔ رجُلٌ ذو وَدَكٍ: . . .ی۔ وَدَكُ الميتة: مردار کا پانی۔ الوَدَّاك: چربی فروش۔ دَجَاجَةٌ وَدُوكٌ و دِيكٌ: موٹی مرغی۔

الوَدِيكَة: چربی ملا ہوا آٹا۔ ودیک کا مؤنث۔ دجَاجَةٌ وَدِيكَة: موٹی مرغی۔

۲۔ بناتُ اوْدَكَ: مصائب۔

◌ وَدَك: چربی۔ وَدِك و وَدُوك و وَدِيك و وادك: چربی دار، موٹا (صفت)۔

ودل: وَدَل يَدِلُ وَدْلاً السقاءَ: مشکیزے میں دودھ بلونا۔

ودن: ا۔ وَدَن يَدِنُ وَدْناً الشيءَ: چیز کو چھوٹا کرنا، کم کرنا۔ کو کوٹنا۔ مودون: کوٹی ہوئی چیز۔ ۔ ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ۔ ودنا و وَدِنَ يَوْدَنُ وَدَنًا ت المَرْأَةُ: عورت کا کمزور جسم کے بچے جننا۔ وَدَّنَ الشيَ: کو چھوٹا کرنا، کم کرنا۔ اوْدَنَ الشيءَ: چیز کو گھٹانا، چھوٹا کرنا، حقیر کرنا۔ ۔ ت المرأةُ: عورت کا کمزور جسم کے بچے جننا۔ المُوْدَن: کمزور بچہ۔ المُوَدَّن: چھوٹا، ناقص الخلقت۔ المَودُون م مَوْدُونَة: کمزور بچہ، کوتاہ گردن اور چھوٹے ہاتھوں والا، ناقص الخلقت، تنگ کندھوں والا۔

۲۔ وَدَنَ يَدِنُ وَدْناً و وداناً الشيءَ: کو تر کرنا، بھگونا۔ ۔ الجلدَ: چمڑے کو نرم کرنے کے لئے مٹی کے نیچے دبانا۔ وَدَّنَ الشيءَ: چیز کو تر کرنا، نرم کرنا۔ تَوَدَّنَ الجلدُ: چمڑے کا نرم ہونا۔ إتَّدَنَ الجلدَ: کھال کو بھگونا۔ ۔ الجلدُ: کھال کا بھیگنا۔ الأَوْدَن: نرم وملائم۔ الوَدِيْن: بھگویا ہوا۔

وده: ا۔ وَدَهَ يَدِهُ وَدْهاً فُلاناً عن الامر: کو سے ہٹانا، روکنا۔ أَوْدَهَ إِيداهاً بالإبل: اونٹوں کو ڈانٹنا۔ ۔ فلاناً عن كذا: کو سے باز رکھنا۔ اِسْتَوْدَهَ الخصمُ: دشمن کا مغلوب ہونا، مطیع ہونا۔ ۔ تِ الابلُ: اونٹوں کا اکٹھا ہونا۔ ۔ الرجُلَ: کو ذلیل جاننا۔ ۔ الأمرُ: کام کا درست ہونا۔

۲۔ الوَدْهاء من النساء: خوبصورت گوری عورت۔

ودی: ا۔ وَدَى يَدِى وَدْياً و دِيَةً القاتِلُ القتيلَ: قاتل کا مقتول کے وارث کو خون بہا دینا۔ اِتَّدَى اتِّداءً: خون بہا لینا، اپنے مقتول کا انتقام نہ لینا (اصل میں اوْتَدَى ہے)۔ اِسْتَوْدَى إِسْتِيداءً بحقه: کے حق کا اقرار کرنا۔ الدِيَة (مص) جمع دِيَات: خونبہا۔ (اصل وَدْيٌ ت واو محذوف کے عوض ہے جیسے عِدَة میں)۔

۲۔ وَدَى يَدِى وَدْياً الشيءُ: بہنا۔ (وادی اس سے مشتق ہے کیونکہ اس میں پانی بہتا ہے۔ وَدَى کا امر کا صیغہ اس طرح پر ہے: دِدِيَا دُوْا دِى دِيَا دِينَ۔) اوْدَى إِيْداءً: ہلاک ہونا صفت: مُودٍ۔ ۔ به الموتُ: موت کا کسی کو لیجانا۔ ۔ بالشيء: چیز کو لیجانا۔ الوَادِى (فا) جمع اوْدِيَة و اوَادِيَة و اوْداء (عام لوگ اس کی جمع وِدْيَان استعمال کرتے ہیں): پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان سیلاب بہنے کی جگہ، طریقہ، مذہب۔ کہا جاتا ہے: هما من وادٍ واحدٍ: یہ دونوں ایک ہی معنی یا لفظ سے ہیں۔ سال بهم الوادى: وہ ہلاک ہوگئے۔ أَنتَ فى وادٍ و نحنُ فى واد: مقاصد میں اختلاف پر یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ الوَدَى: ہلاکت۔ الوَدِيّ واحد وُدِيَّة (ز): کھجور کے چھوٹے پودے۔ المُودِى (ح): شیر۔ (درندہ)۔

۳۔ وَدَى يَدِى وَدْياً و دِيَةً الأمرَ: کو نزدیک کرنا۔

۴۔ التودِيَة جمع التَوَادِى: پستہ قد آدمی، اونٹنی کے تھنوں پر باندھنے کی لکڑی۔

◌ وَدَى يَدِى وَدْيَاه: کو مقتول کا خون بہا دینا۔ اوْدَى: مرنا، ہلاک ہونا۔ ۔ ب: (موت کا) کو ہلاک کر دینا۔ ۔ ب: کو قتل کرنا، تباہ کرنا۔ اوْدَى بحياتِه: کی زندگی تباہ کر دینا۔ اوْدَى بصحته: کی صحت برباد کرنا، کی قوت ختم کر دینا۔ دِيَة جمع دِيَات: خون بہا، جسمانی نقصان کا ہرجانہ۔ وادٍ جمع اوْدِيَة و وِدْيان: وادی، دریائی وادی، دریا کا پیندا، گہری گھاٹی، تنگ گھاٹی، دریا (اخباری) کالم: اسال اودية من الحبرِ: روشنائی کافی مقدار میں گرانا۔ نحن فى داد و انتم فى واد: ہم مختلف کیمپوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے رمیان ایک گہری خلیج ہے، ہم مختلف دنیاؤں میں کھڑے ہیں۔ حَوَّمَ به الفكرُ فى اوْدِيةٍ شَتّى: اس کے خیالات اسے دور لے گئے، وہ کوئی اور بات سوچ رہا تھا، وہ خیالات میں کھویا ہوا تھا، پراگندہ دماغ تھا۔ ذهب صيحةً فى واد: پکار کارائیگاں جانا اور کسی کا نہ سننا۔ هَامَ فى وِدْيانٍ: وہ بدحواس تھا، وہ اپنے آپ میں نہ تھا، وہ بلند تر میدانوں میں تیر رہا تھا۔ فى كلِّ وادٍ: ہر جگہ، ہر جانب۔ وادِى حَلْفا: (مصر کی سرحد پر شمالی سوڈان کا ایک شہر)۔

وذّ: وَذْوَذَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے: مَرَّ الذئبُ يُوَذْوِذُ: بھیڑیا جلدی جلدی چلتے گزرا۔ رجُلٌ وَذْوَاذٌ: تیز چلنے والا مرد۔

وذا: وَذَأَ يَذَأُ وَذْأً فلاناً: کو ڈانٹنا، حقیر سمجھنا، پر عیب لگانا۔ ۔ ت العينُ عن الشيءِ: آنکھ کا چیز سے چندھیا جانا۔ اِتَّذَأ: جھڑکی برداشت کرنا۔ الوَذْء (مص): ناپسندیدہ بات۔ الوَذَأَة: عیب، علت۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وذح: ا۔ وَذَحَ يَذِحُ وَذْحاً: تیز چلنا۔ وَذِحَ يَوْذَحُ وَيَيْذَحُ وَذَحًا الرجلُ: رانوں کے اندر کے حصوں کا جلا ہوا ہونا۔

۲۔ وَذِحَ يَوْذَحُ و يَيْذَحُ وَذَحاً تِ الشاةُ: بکری کا رانوں پر خشک گوبر یا مینگنی لگی ہوئی ہونا۔ الوَذَحُ واحد وَذَحَة جمع وُذْح: بکری یا بھیڑ کی اون میں لگا ہوا خشک شدہ پیشاب یا مینگنیاں۔ الأوْذَح: لئیم، کمینہ۔

وذر: ا۔ وَذَرَ يَذِرُ وَذْراً ہُ: کو کاٹنا۔۔ الجرحَ: زخم کو چیرنا۔۔ وَذَّرَ تَوْذِيراً الوَذْرَةَ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹنا۔ الوَذْرَة من اللحم جمع وَذْر و وِذَر: گوشت کا چھوٹا ٹکڑا۔ الوَذْرَتان: دو ہونٹ۔ الوَذِرَة: پر گوشت بازو، بدبو والی عورت یا موٹے ہونٹوں والی عورت۔ الوُذَارَة: درزی کے کٹے ہوئے کپڑا کا ٹکڑا یا کاٹ چھانٹ۔

۲۔ وذر يذر وَذْراً الشيءَ: کو چھوڑنا (یہ معنی صرف مضارع و امر میں ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں: ذَرْہُ: اسے چھوڑ دے يذرُہُ وہ اسے چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا۔ اگر ماضی مراد ہو تو کہا جائے گا تَرَكَ یا مصدر الترك اور اسم الفاعل تارك کہا جائے گا۔

وذع: وَذَعَ يَذَعُ وَذْعاً الماءُ: پانی بہنا۔ الوَاذِع (فا): چشمہ، چٹان پر بہنے والا پانی۔

وذف: وَذَفَ يَذِفُ وَذْفاً الشحمُ وغيرُهُ: چربی وغیرہ کا بہنا۔۔ وُذُفاً و وَذَفاناً و وَذَّفَ و تَوَذَّفَ: ناز وتکبر سے چلنا۔

وذل: ا۔ تَوَذَّلَ القومُ من الجزار: لوگوں کا قصائی سے گوشت کا ٹکڑا لینا۔ الوَذَالَة: گوشت کا ٹکڑا جس کو قصاب تقسیم سے علیحدہ رکھ لے۔ الوَذِيلَة: کوہان یا دم کے گوشت کا ٹکڑا۔

۲۔ امرأةٌ وَذِلة و وَذْلة: خوبصورت قد والی چست عورت۔ الوَذِيلَة جمع وَذِيل و وَذَائل: چاندی کا پالش کیا ہوا یا عام ٹکڑا، آئینہ۔۔ من النساء: خوبصورت قد کی عورت۔

وذم: وَذِمَ يَوْذَمُ وَذَماً تِ الدلوُ: ڈول کا تسمہ ٹوٹنا۔ صفت: وَذِمَة۔۔ الوَذَمُ نفسُهُ: تسمہ ٹوٹنا۔ وَذَّمَ ہُ: کو کاٹنا۔۔ الكلبَ: کتے کی گردن میں تسمہ یا پٹا باندھنا۔۔ الدلوَ: ڈول کا تسمہ بنانا۔۔ اليمينَ: قسم اپنے پر واجب کرنا۔۔ على الخمسين: پچاس سے عمر زیادہ ہونا۔ أوْذَمَ الدلوَ: ڈول میں تسمہ باندھنا یا اس کے لئے تسمہ بنانا۔۔ النذرَ: اپنے پر نذر واجب کرنا۔۔ على الخمسين: پچاس سے زیادہ ہونا۔ الوَذَم (مص) جمع وُذُوم و أوْذَام و أوْذُم و جمع أوَاذِم: بیشی، زیادتی، منہ۔۔ واحد: وَذَمَة: ڈول کا تسمہ۔ الوَذَمَة جمع وِذَام: آنتیں، اوجھ۔ امرأةٌ وَذْمَاء: بانجھ عورت۔ فرسٌ وَذْمَاء: بانجھ گھوڑی۔ الوَذِيمَة جمع وَذَائِم: فی سبیل اللہ دیا جانے والا مال۔ وَذِيمَةُ الكلب: کتے کی گردن کا پٹہ۔

وذن: تَوَذَّنَ تَوَذُّناً ہُ: کو پھیر دینا، تبدیل کرنا۔۔ الشيءُ فلاناً: چیز کا کسی کو پسند آنا۔

وذى: وَذَى يَذِي وَذْياً وجهَهُ: کے چہرہ کو ناخنوں سے نوچنا، چھیلنا۔ الوَذَاة: ایذا پانے کا باعث۔ الوَذِيَّة: ایک بار، درد، بیماری، عیب، تھوڑا پانی۔

ور: ا۔ الوَرّ (ع ا): سرین۔ الوَرَّة: زمین کا گڑھا، سرین۔

۲۔ وَرْوَرَ النظرَ: نظر تیز کرنا۔۔ في الكلام: جلدی بولنا۔ الوَرْوَار (ح): شہد کی مکھیاں کھانے والا پرندہ۔ چھوٹی ٹانگوں کالی اور لمبی چونچ کا ایک پرندہ جس کے سر کے بالائی حصہ پر سرخی اور گلے میں حلقہ ہوتا ہے، رنگ زردی مائل جبکہ سارا بدن نیلگوں مائل ہوتا اور دم میں دو لمبے پر ہوتے ہیں۔ الوَرْوَرِيّ: کمزور نظر والا۔ المُوَرْوِر (فا): گانے والا، چہچہانے والا (پرندہ)۔

ورأ: وَرَأَ يَرَأُ وَيَوْرَأُ وَرْءاً الشيءَ: کو ہٹانا، دور کرنا۔۔ من الطعام: کھانے سے شکم سیر ہونا۔ کہا جاتا ہے: ما وُرِئْتُ و ما أُورِئْتُ و ما وُرِّئْتُ به: میں نے اس کو نہیں جانا۔ تَوَرَّأَتْ عليه الارضُ: پر زمین کا گر کر برابر ہو جانا۔ الوَرَاء: پوتا، چوڑی چپٹی ہڈیوں کا موٹا اور جسیم۔ وَرَاءُ الإنسان: انسان کے پیچھے، (کبھی) آگے۔ مذکر و مونث۔ تصغیر وُرَيِّئَة و وُرَيّ (کہا جاتا ہے: هُوَ وُرَيِّئَةَ الحائط او وُرَيِّئَةَ: وہ دیوار کے ذرا پیچھے (آگے) ہے)۔ بِسوى: کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے: ومن ابتغى وراءَ ذلك: جو شخص اس کے سوا طلب کرے۔

ورب: ا۔ وَرِبَ يَوْرَبُ وَرَباً العِرقُ: خراب ہونا صفت: وَرِب۔ وَرَّبَ الشيءَ فَاوْرَبَ: چیز کو ترچھا کرنا، موڑنا، خم کرنا، پھر اس کا ترچھا ہو جانا، مڑ جانا اور خم ہو جانا (عام زبان میں)۔ وَرَّبَ عن الشيءِ: کے بارے میں معارضات سے توریہ کرنا۔ وَارَبَ وِرَاباً و مُوَارَبَةً الرجلَ: کو فریب میں لانا، کو فریب دینا۔ الوَرْب جمع أوْرَاب: جنگلی جانوروں کا بھٹ، چوہے یا بچھو وغیرہ کے بل کا منہ۔ الوِرَاب: کجی، موڑ۔

۲۔ الوَرْب جمع أوْرَاب: [illegible] انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کھلی ہوئی حالت میں۔ الوَرْب: عضو۔ الوَرْبَة: چوتڑ، کوکھ کا گڑھا۔

۳۔ وَرَّبَ عن: کے بارے میں گول یا پہلو دار بات کرنا، مبہم بات کہنا۔ وَارَبَ ہُ: سے دورخی سے کام لینا، دھوکا کرنا، کو جل دینا، ٹھگ لینا۔ وَرْب جمع أوْرَاب: ترچھا پن، خم، کجی، جھکاؤ، خم دار طرف، ڈھلوان، قطر، وتر، وتری، زاویہ قائمہ سے منحرف۔۔ بالوَرْب: آڑے طریقے سے، ترچھے راستہ سے، آڑا آڑا ترچھا ترچھا، طعن وطنز سے، چوٹ دے کر، ترچھا، ٹیڑھا، آڑا، وتر کی شکل، زاویہ قائمہ سے منحرف، چوڑے رخ، قطع کرتا ہوا۔ وِرَاب: ترچھا پن، کجی، جھکاؤ۔ مُوَارَبَة: گول مول بات، ابہام، ہیر پھیر، لفظی ہیر پھیر، مبہم بات، ذو معنی لفظ یا جملہ۔ بدون مُوَارَبَةٍ یا في غير مُوَارَبَة: واضح غیر مبہم طور پر، یقینی طور پر۔ مَوْرُوب: ترچھا، جھکا ہوا، ڈھلوان، آڑا، منحرف از زاویہ قائمہ، وتری، قاطع، جزوی طور پر کھلا ہوا، نیم وا، نیم باز (دروازہ)۔ مُوَارِب: نیم وا، نیم باز (دروازہ)

ورث: ا۔ وَرِثَ يَرِثُ وِرْثاً و وَرْثاً و إرْثاً و إرْثَةً و رِثَةً و تُراثاً فلاناً: کا وارث ہونا۔ کہا جاتا ہے: وَرِثَ المالَ و المجدَ عن فلان: اس کو فلاں سے مال اور شرافت ورثہ میں ملی۔ وَرَّثَ الرجلَ مالاً: مال کو کی میراث قرار دینا۔۔ ہُ من فلان: کے مال کو کے لئے ورثہ میں چھوڑنا، مال کو کسی شخص کو میراث کے طور پر دینا۔ کو فلاں کا وارث بنانا۔۔ الرجلُ فلاناً: کو اپنا وارث بنانا۔ أوْرَثَ إيراثاً ہُ: کو وارث بنانا۔۔ فلاناً مالاً: مال کو فلاں کی میراث قرار دینا۔ مال کو کے لئے ورثہ میں چھوڑنا، کو مال میراث کے طور پر دینا۔۔ ہُ السَقَمَ: کو بیماری میں مبتلا کرنا۔۔ ہُ الشيءَ: کو کا وارث بنانا۔۔ ہُ الحزنُ هَمّاً: غم کا کے لئے پریشانی کا باعث ہونا۔۔ المطرُ النباتَ نعمةً: بارش کا پودوں کے لئے باعث نعمت ہونا۔۔ ولدَہُ: اپنے بیٹے کو تنہا اپنا وارث بنانا۔ تَوَارَثَ القومُ: ایک دوسرے کا وارث ہونا۔۔ القومُ المالَ او المجدَ: بعض کا بعض سے مال یا شرافت کا وارث ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَوَارَثُوا المجدَ كابراً عن كابرٍ: انہوں نے اپنے باپ دادوں سے شرافت پائی۔۔ المجدُ متوارث بينهم: شرافت انہیں ورثے میں ملی ہے۔ هم في ارث مجد: وہ شرافت کے وارث ہیں۔ تَوَارَثَتْنِي الحوادثُ: حوادث مجھ پر پے در پے آ گئے۔ الوارِث جمع

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وَرَثَة و وُرَّاث (فا): وارث للارث و الورث و
الوراثة و التراث (مصادر): میت کا ترکہ۔
المَوْرُوث (مفع): میراث چھوڑنے والا، ورثہ میں
حاصل کیا ہوا مال للمیراث: جمع مواریث: میت کا
ترکہ۔
۲وَرَّثَ النار: آگ بھڑکانے کے لئے ہلانا۔
۳للوَرْث: تازہ چیز۔
ت وَرِثَ یرِثُ وِرْثًا و اِرْثًا و اِرْثَةً و وِراثَةً و رِثَةً و
تراثًا ہ: کا وارث ہونا۔ ہ من/عن ہ: کو سے
ورثہ میں پانا وَرَّثَ ہ: کو وارث مقرر کرنا۔ ہ ہ:
کو کوئی چیز وصیت کے ذریعے منتقل کرنا، کے لئے کوئی
چیز چھوڑنا، کے لئے کوئی چیز ورثے میں چھوڑنا، کے
لئے کوئی ترکہ چھوڑنا، کو کوئی چیز امیراث کے طور پر دینا،
کے حوالے کوئی چیز کرنا اَوْرَثَ بمعنی وَرَّثَ۔
نیز اَوْرَثَ ہ ہ: کے لئے کا سبب ہونا تَوارَثَ ہ:
کا وارث ہونا، کو بطور وراثت رکھنا توث: ورثہ پانا،
ورثہ، ترکہ، میراث، (موروثی) جائداد وِرْث: ورثہ
پانا، ترکہ، ورثہ، میراث وِراثَة: ورثہ پانا، ورثہ،
ترکہ، میراث۔ وراثةً: منتقل ہو سکنا، موروثی، جدی،
انتقال، موروثیت وِراثي: موروثی، جدی للامراض
وراثیة: موروثی بیماریاں وَرِیث جمع وُرَثاء:
وارث تُراث: ورثہ پانا، ورثہ، ترکہ، میراث میراث:
ترکہ، ورثہ، میراث، موروثی جائداد تَوارُث: موروثی
انتقال، تَوارث وَارِث جمع وَرَثَة و وُرَّاث:
وارث مَوْرُوث: ورثہ میں پایا ہوا، روایتی، وراثتی،
خاندانی، موروثی مُوَرِّث و مُوَرَّث: موصی،
وصیت چھوڑنے والا، وصیت کرنے والا، وصیت
کنندہ مُتَوارَث: ورثہ میں پایا ہوا، خاندانی خصوصیات
کا حامل۔
ورخ: وَرِخَ یَوْرَخُ وَرَخًا العجین: گندھے ہوئے
آٹے کا پتلا ہونا اَوْرَخَ العجین: گندھے ہوئے
آٹے کو پتلا کرنا تَوَرَّخَ تَوَرُّخًا العجین:
گندھے ہوئے آٹے کا پتلا ہونا اِسْتَوْرَخَ
اِسْتِیراخًا ت الارض: زمین کا تر ہونا مکان
وَرِخ: گھنی گھاس والی جگہ الوریخة جمع
وَرائخ: تر زمین، گیلی زمین، پتلا گندھا ہوا آٹا وَرَّخَ
الکتاب: خط پر تاریخ لکھنا۔ دیکھو مادہ "ارخ"۔
ورد: وَرَدَ یَرِدُ وُرُودًا الماءَ: پانی پر آنا یا پہنچنا۔
صفت وارِد۔ الماء وغیرہ: پانی وغیرہ پر پہنچنا،
کے قریب جانا اسم الوِرْد۔ الرجل: حاضر ہونا۔
ت الحُمّی: بخار کا باری سے آنا وَرَدْتُ البلدَ:
میں شہر میں وارد ہوا وَرَدَ علیّ کتابٌ: میرے
پاس خط آیا وُرِدَ الرجلُ: کو بخار آنا۔ علیه
بفلان: کے پاس کسی کو لایا جانا وَارَدَ مُوارَدَةً
الرجلَ: کے پاس آنا۔ الشاعرُ الشاعرَ:
دوسرے شاعر کی نظم سے ملتی جلتی نظم بغیر اس کو دیکھے یا
سننے کے کہنا اَوْرَدَ اِیرادًا ہ: کو گھاٹ پر لانا، کو پیش
کرنا، کو لانا الیرادُ البضائع: مال کی درآمد، اس
کے برعکس: برآمد کو اصدار کیا جاتا ہے۔ ہ الماءَ: کو
پانی پر لانا اَوْرَدَ الکلامَ: کی تصریح کرنا۔
الشيءَ: کا ذکر کرنا۔ علیه الخبرَ: سے خبر بیان
کرنا تَوَرَّدَ: پانی پر آنے کو کہنا۔ الماءَ: پانی پر
آنا۔ الخیلُ البلدةَ: شہر میں چھوٹے چھوٹے
دستوں میں داخل ہونا تَوارَدَ القومُ اِلی المکان:
کسی جگہ ایک ایک کر کے حاضر ہونا۔ القومُ الماءَ:
پانی پر اکٹھے پہنچنا۔ الشاعِران: دو شاعروں کا بغیر
لئے یا سنے ہوئے لفظ و معنی میں اتفاق کرنا اِسْتَوْرَدَ
الماءَ: پانی پر آنا۔ ہ: کو گھاٹ پر لانا۔
الضلالةَ: گمراہی میں مبتلا ہونا۔ فلانًا
الضلالةَ: کو گمراہی میں مبتلا کرنا۔ البضائع
(ن): مال کو دوسرے ملکوں سے درآمد کرنا الوارِد:
دلیر، بہادر، جری، راستہ، لمبے لٹکے ہوئے بال وغیرہ۔
فلانٌ واردُ الأرنبةِ: فلاں لمبی ناک والا ہے، ہر لمبی
چیز کو وارد کہتے ہیں۔ جمع وارِدُون و وُرّاد و
وُرُود و وارِدَة (فا): پانی پر آنے والا، آنے والا،
پہنچنے والا الوارِدَة: الوارد کا مونث: راستہ، پگڈنڈی،
پانی پر آنے والے لوگ الوارِدات: کشمش وغیرہ۔
(اس کے برعکس الصادرات) الوَرْد جمع وُرُد و
وِراد و اَوْراد (ح): شیر، بہادر، دلیر، جری۔
الوِرْد: پیاس، پانی کا حصہ، لایا ہوا پانی، پانی پر آنے
والے اونٹ یا لوگ، لشکر، پرندوں کا جھنڈ۔ جمع
اَوْراد: بخار، پانی وغیرہ پر آنا، قرآن حکیم کا وہ حصہ جو
ورد کے طور پر ہر رات پڑھا جائے الوَرُود: تیز
چلنے والا اونٹ الوَرِید جمع اَوْرِدَة و وُرُد و
وُرُود (ع ا): گردن کی رگ، اس کو حبل الورید بھی
کہتے ہیں یُحَلّ منتفخ الوَرِید: غضبناک بد خلق
آدمی المَوْرِد جمع مَوارِد: گھاٹ، پانی کی
طرف جانے کا راستہ المَوْرِدَة: پانی کی جگہ، پانی
کی طرف جانے کا راستہ، جائے ہلاکت۔
ع وَرَدَ یَرِدُ وُرُودًا ت الشجرةُ: درخت کا پھول
نکالنا وَرُدَ یَوْرُدُ وُرُودَةً و اِیرادًا الفرسُ: گھوڑے
کا زردی مائل سرخ ہونا وَرَّدَ الشجرُ: درخت کا
پھول نکالنا۔ ت المرأةُ: عورت کا اپنے رخساروں
کو سرخ کرنا۔ الثوبَ: کپڑے کو گلابی رنگنا تَوَرَّدَ
الخدُّ: رخسار کا سرخ ہونا الوَرْد جمع وُرُد و
وِراد و اَوْراد (ن): زعفران۔ من الخیل:
زردی مائل سرخ رنگ کا گھوڑا۔ واحد وَرْدَة جمع
وُرُود: درخت کی کلی (ن): گلاب کا پودا وَرْد
ذفراء (ن): ایک قسم کا پودا الوُرَیْدة: گھوڑے کا
سرخ رنگ الوَرْدي م وَرْدِیَّة: گلابی رنگ کا الوَرْدِیَّة
(ن): ایک قسم کا پھولدار پودا۔ عند الکاثولیك:
ہر مہینے کے پہلے اتوار کو حضرت مریمؑ کی خدمت میں
پیش کی جانے والی عبادت الوَرْدِیّات: گلاب
سیب، خوبانی، بہی وغیرہ کے نباتات، پودوں اور
درختوں پر مشتمل ایک قسم بنت وَرْدان جمع
بنات وردان (ح): ایک قسم کا بدبودار کیڑا المُوَرَّد
(مفع): گلابی، سرخ۔ کہا جاتا ہے جمع مُوَرَّدَة
القذال: وہ گدی پر تھپڑ کھا کر لوٹا۔ جو طمانچوں سے
سرخ ہو گئی تھی۔
۳اللوَرْدِیان: حارس، چوکیدار۔
ق وَرَدَ یَرِدُ وُرُودًا: آنا، پہنچنا، ظاہر ہونا، پایا جانا۔
في: (کتاب، خط وغیرہ میں) کہا جانا، مذکور ہونا۔
الی/ ہ: (کسی جگہ) پہنچنا، آنا۔ علی: (خط،
روپیہ پیسہ وغیرہ) کو ملنا؛ کے ہاتھ آنا وَرَّدَ ہ ب:
کسی چیز کو کسی چیز یا شخص کے پاس پہنچانا۔ ہ: کو
درآمد کرنا۔ ہ ب: کوئی چیز کسی کو مہیا کرنا، فراہم
کرنا، کو کھلانا، کو میں جمع کرانا، کو میں ادا کرنا اَوْرَدَ
ہ/ہ: کو بتانا، رکھنا۔ ہ/علی: کے پاس آنا۔
ہ/ہ علی/الی: کو کے پاس لانا، لیجانا۔ ہ الی:
کو کسی جگہ منتقل کرنا۔ ہ: کو درآمد کرنا۔ ہ: کو جمع
کرانا، ادا کرنا۔ ہ: کو پیش کرنا، کو فراہم کرنا، مہیا
کرنا۔ ہ: کا ذکر کرنا، کو بیان کرنا، کی تربیت کرنا، کا
حوالہ دینا۔ ہ ب: اپنی گفتگو میں بات کا تانا قطع
کلام کرنا، کا تعارف کرانا، کا اتفاقیہ ذکر کرنا، کی طرف
اشارہ کرنا تَوارَدَ: لگا تار آنا، پہنچنا، یکے بعد دیگر
آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا، مسلسل ہونا، پے در پے
ہونا، متواتر ہونا، (خبروں مراسلوں وغیرہ) کا آنا
(خیالات وغیرہ کا) منطبق ہونا، ٹھیک بیٹھنا، اتفاقاً
یکساں، وہی، ہو بہو، بالکل ویسا یا ویسا ہی ہونا۔
اِسْتَوْرَدَ ہ من: کی طرف سے فراہم کردہ چیز رکھنا،
کو سے خریدنا، لینا، کو سے درآمد کرنا مَوْرِد: پانی لینے
کی جگہ، جانوروں کا پانی پر آنا۔ جمع اَوْراد: (پنجگانہ
نماز کے علاوہ) دن یا رات مخصوص وقت جو ذاتی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عبادت کے لئے وقف ہو الوِردُ الذی طالما التسبیح بہ یا الورد الذی یُتلٰی فی الغُدُوِّ و الآصال: ہمیشہ وہی پرانا قصہ جنتُ وردانَ جمع بناتُ وَرَدان: کوکروچ، تل چٹا وَرِید جمع اَوْرِدَة و وُرُد و وُرُود: رگ، رگِ گردن حبلُ الوَرِید: رگِ گردن وُرُود: آنا، پہنچنا، آمد، ظہور۔ مَورِد جمع مَوارِد: آنے یا پہنچنے کی جگہ، منزل مقصود، پانی تک رسائی، پانی پینے پلانے کی جگہ، چشمہ، کنواں، ذریعہ، جس سے رجوع کیا جائے، مصلحت، چارہ کار، ابتداء کی جگہ، اصل مقام، آمدنی کا ذریعہ، آمدنی، سپلائی در آمد موارِدُ الدولة: حکومت کے مالیہ محاصل مواردُ الزیت: تیل کے کنویں۔ مواردُ المعیشة: فوڈ سپلائی لائنز (food suply lines) مَورِدَة: پانی پینے یا پلانے کی جگہ، اترنے کی جگہ، گھاٹ، جہازوں سے مال اتارنے چڑھانے کا گھاٹ، لکڑی یا پتھر کا ساحلی چبوترہ، مال گودی۔ تورید جمع توریدات: فراہم کرنا، بہم رسانی، خوراک، در آمد کرنا، در آمد، سپلائی، دانہ، گھاس، چارہ، دودھ، راتب خوراک تورید البضائع: سامان کی بہم رسانی اِیراد: حجت، دلیل، نظیر کا اظہار، حتمی بیان۔ اِدّعاء پیش کرنا، ذکر کرنا، حوالہ دینا، حوالہ، اقتباس، قول۔ جمع اِیرادات: در آمد کرنا، در آمد، بہم رسانی، مالیہ، آمدنی، منافع، نفع، محاصل، وصولی، پیداوار تَوارُد: پے در پے آمد، خیالات کی اتفاقیہ یکسانیت یا کامل مطابقت اِستیراد: در آمد کرنا، در آمد، در آمدات وارِد جمع وُرّاد: آنے والا، پہنچنے والا، پایا ہوا، مذکور، نووارد، آمد جمع واردات: در آمدات وصولیاں، منافع آمدنی واردات و صادرات: در آمدات و بر آمدات مُوَرِّد: بہم رساں، ٹھیکیدار مُستَورِد: در آمد کنندہ مُستَورَدات: در آمد شدہ چیزیں، سامان، در آمدات وَرَّدَ: درخت کا پھولنا، پھلنا، بہار پر آنا، شگوفوں سے بھرنا، پھولوں سے لدنا۔ ہ: پر سرخی لگانا، گلگونہ لگانا، کا بناؤ سنگار کرنا، کو سرخ رنگنا تَوَرَّدَ: سرخ ہونا یا ہو جانا، گلابی رنگ کا ہونا، (رخسار کا) سرخ ہو جانا، رخسار پر سرخی دوڑ جانا، رخسار کا تمتمانا اِیرادَ: بمعنی تَوَرَّدَ۔ وَرْد (اسم جمع واحد وَرْدَة) جمع وُرُود: گلاب کا پھول، شگوفے، پھول، کلی، لال سرخی، گال کی سرخی۔ وَرْدَة: گلاب (کا پھول)، سجاوٹی گلاب، طرة، گلاب کی جھاڑی، واشل، پستن کا باندھنے کا چھلا وَرْدِی: گلابی، گلابی رنگ کا وَرْدِیَة: تختہ گل، گلستان۔

وَرْدَة: سرخی مائل رنگ مُوَرَّد: گلابی، سرخ مُوَرِّد: گلابی۔

ورس: وَرَسَ۔ وُرُوساً النبتُ: نباتات کا سبز ہونا۔ وَرِسَ یَورَسُ وَرَساً الصخرُ: چٹان کا کائی سے ہری اور پھسلن والی ہونا وَرَّسَ الثوبَ: کپڑے کو ورس میں رنگنا اَورَسَ الشجرُ: درخت کا پتوں والا ہونا۔ المکانُ: جگہ کا ورس والی ہونا الوارِسُ من الثیاب: سرخ کپڑا وارِسُ الحُمرةِ: سخت سرخ الوَرْس (ن): ایک قسم کی گھاس جو رنگائی کے کام آتی ہے۔ اور اس سے زعفران بنائی جاتی ہے۔ الوَرِس من الثیاب: سرخ کپڑا الوَرْسِی و الوَرِیس و المُوَرَّس: ورس سے رنگا ہوا۔ جبال الاوراس: مشرقی الجیریا میں اوراس پہاڑ۔

ورش: وَرَشَ یَرِشُ وَرْشاً و وُرُوشاً: لالچ کرنا اور رذیل کاموں کے پیچھے لگنا۔ شیئاً من الطعام: کوئی کھانا حرص سے کھانا۔ ہ بفلان: کو کے ذریعے بھڑکانا۔ علی القوم: بغیر بلائے کھانے والوں کے پاس پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: تَرِشْ علّی: میری بات نہ کاٹو وَرَّشَ تَورِیشاً بین القوم: لوگوں کو بھڑکانا۔ اَرَّشَ تاریشا بھی کہا جاتا ہے۔ الوَرْش (مص): دودھ سے تیار کیا ہوا کھانا الوَرَش: پیٹ کا درد الوَرْشَة (ب): ورکشاپ الوَرَشان م وَرَشانة جمع وِرشان و وَراشین (ح): قمری۔

۲وَرِشَ یَورَشُ وَرَشاً: چست چالاک اور خوش طبع ہونا صفت وَرِش م وَرِشة جمع وَرِشات۔ ولدٌ وَرِشٌ: نچلا نہ بیٹھنے والا لڑکا (عام زبان میں)۔ ۳وَرَشَ یَرِشُ وَرْشاً علی: کے منصوبوں میں مداخلت کرنا، اپنے آپ کو کسی پر ٹھونسنا وَرَّشَ: امن خراب کرنا، تباہ کرنا، مصیبت کھڑی کرنا وَرِش: خوش طبع، چست، پھرتیلا، ہر وقت کام میں لگا رہنے والا، بے تاب، بے قرار وارِش: سر پر سوار ہونے والا، خواہ مخواہ دخل دینے والا، ناخواندہ مہمان، طفیلی وَرْشَة جمع وَرَشات و وِرَش: ورکشاپ وَرشة الاصلاح: سروس اسٹیشن وَرشة غسیل: دھوبی گھاٹ۔

ورص: وَرَصَ یَرِصُ ورصاً و وَرَّصَ و اَورَصَتِ الدجاجةُ: مرغی کا انڈے دینا المَورِص جمع اَوراص: پائخانہ۔

ورض: وَرَّضَ: چراگاہ تلاش کرنا۔

ورط: وَرَّطَ ہُ: کو مشکل میں ڈالنا، ایسی پریشانی میں ڈالنا جس سے نکلنا مشکل ہو۔ بِہ فی بلیّة اخری ... اپنے اونٹوں کو دوسرے اونٹوں میں چھپانا وَارَطَ وِراطاً و مُوارَطَةً ہُ: کو دھوکا دینا اَورَطَ ہُ: کو مشکل میں ڈالنا۔ الشیءَ: کو چھپانا تَوَرَّطَت الماشیةُ: مویشی کا کیچڑ والی زمین یا کسی جگہ میں پھنسنا۔ الرجلُ: مشکل یا پریشانی میں پھنسنا یا پڑنا، ہلاک ہونا اِستَورَطَ: ہلاک ہونا۔ فی أمرٍ: ناقابل خلاصی مشکل میں پھنسنا۔ کہا جاتا ہے: اِستورط فی حبالتی: وہ میرے جال میں پھنس گیا الوَرْطَة جمع وَرَطات و وِراط: کیچڑ، سخت کیچڑ، بے راستہ پست زمین یا میدان، کنواں، تنگ گڑھا ہلاکت، ہر مشکل کام جس سے خلاصی مشکل ہو الوِراط: دھوکہ، فریب۔

۲الوَرْطَة جمع وَرَطات و وِراط: دُبر۔

۳وَرَّطَ و اَورَطَ ہ فی: کو (مشکلات) میں الجھانا، پھنسانا، مبتلا کرنا، کو ناگوار صورت حال میں ڈالنا، کو بری پریشانی میں مبتلا کرنا تَوَرَّطَ: مشکلات میں پھنسنا، مصیبت میں پڑنا۔ فی: میں پھنسنا، الجھنا، مبتلا ہونا اِستَورَطَ فی: میں الجھ جانا، پھنسنا، مبتلا ہونا۔ وَرْطَة جمع وَرَطات و وِراط: مشکل یا تشویش ناک صورت حال، مشکل، پریشانی، دہری مشکل، برا حال، بری حالت، ناگوار صورت حال، خطرناک صورت، تکلیف دہ حالت، مشکل، پریشانی، بند ہونا، گڑ بڑ، بری پریشانی، الجھاؤ مُتَوَرِّط فی: میں الجھا، پھنسا مَورُوط: بری حالت میں، بری پریشانی میں، بری مشکل، اور بری مشکل میں، خطرناک صورت میں۔ مُوَرَّط: بمعنی مَورُوط۔

ورع: وَرَعَ یَرَعُ وَرَعاً و وَرْعاً و وَرُوعاً و وُرُوعاً: گناہ سے دور رہنا، شبہات اور گناہوں سے باز رہنا۔ صفت وَرِع۔ ــــ وَرُعَةً و وَرَاعَةً و وُرْعَةً و وَرَاعاً و وُرُوعاً و وُرْعاً و وُرْعاً: کمزور ہونا، بزدل ہونا، حقیر ہونا وَرِعَ یَرِعُ وَرَاعَةً عن کذا: سے رکنا، باز رہنا۔ یَرِعُ و یَورَعُ وَرَعاً و وَرْعاً و وَرُوعاً و وُرُوعاً: گناہ سے دور ہونا، شبہات اور معاصی سے رکنا۔ صفت وَرِع۔ وَرُعَ یَورُعُ وَرْعَةً و وَرَاعَةً و وُرْعَةً و وَرَاعاً و وُرُوعاً و وُرْعاً و وُرْعاً: کمزور ہونا، بزدل ہونا، حقیر ہونا وَرَعاً و وَرْعاً و وَرُوعاً و وُرُوعاً: گناہ سے دور ہونا، شبہات و معاصی سے رکنا، باز رہنا۔ صفت: وَرِع ــ وَرَاعَةً و وُرْعاً و وُرُوعاً: معمولی مال والا ہونا وَرَّعَ الفرسَ: گھوڑے کو لگام سے روکنا۔ الإبلَ عن الماءِ: اونٹوں کو پانی پر

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سے واپس لانا۔ و اَوْرَعَ فلاناً عن كذا: کو سے روکنا۔ بينهما: کے مابین آڑ بننا۔ کہا جاتا ہے: ما وَرَّعَ ان فعل كذا و كذا: اس نے اس بات کو نہیں جھٹلایا کہ اس نے ایسا ویسا کیا۔ تَوَرَّعَ من او عن كذا: سے بچنا۔ الرِعَة و الرِيْعَة: معاصی و شبہات سے اجتناب، پرہیز۔ الوَرَع (مص): معاصی اور شبہات سے پرہیز۔ ـــ جمع اَوْرَاع: تقوی، پرہیزگاری۔ رَجُلٌ وَرَعٌ: بزدل کمزور جس کے پاس کوئی قابلیت نہ ہو۔ الوَرِع: پرہیزگار۔ الوَرِيع: روکنے والا۔

۲۔ وَارَعَ مُوَارَعَةً: سے بات چیت کرنا، مشورہ کرنا۔

۳۔ الرِعَة: حالت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ حسنُ الرِعَةِ او سيءُ الرِعَةِ: فلاں شخص اچھی یا بری حالت میں ہے۔

ورِعَ يَرِعُ وَرَعاً و وَرْعاً و وَرَاعَةً: دین دار، خدا ترس، پارسا یا متقی ہونا۔ تَوَرَّعَ عن: سے رکنا، کے بارے میں محتاط ہونا، ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، تامل کرنا۔ ـــ من / عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، محترز رہنا۔ وَرَع: خدا ترسی، پارسائی، تقوی، زہد و اتقاء، احتیاط، چوکسی، بزدلی، شرم، حیا، ضبط، کم آمیزی۔ وَرِع: خدا ترس، پارسا، متقی، پرہیزگار، دیندار، محتاط، کم آمیز، کم گو۔

ورف: ا۔ وَرَفَ يَرِفُ وَرْفاً و وَرِيفاً و وُرُوفاً و رِفَةً الظلُّ: سایہ کا دراز و فراخ ہونا۔ ـــ النباتُ: نباتات کا سرسبز و شاداب ہونا اور لہلہانا صفت: وَارِف۔ وَرَّفَ النباتَ الناعمَ: تر نباتات کو چوسنا۔ ـــ و اَوْرَفَ الظلُّ: سایہ کا دراز و فراخ ہونا۔ الرِفَة (مص): سرسبز نباتات۔ الرُفَة: بھوسہ۔ الوَرْف (مص): جگر کے پتلے کنارے۔ وَرْفُ الشجرِ و وَرَفُه: درخت کا لہلہانا، درخت کی خوشنمائی۔

۲۔ وَرَّفَ الارضَ: زمین کو تقسیم کرنا۔

ورَفَ يَرِفُ وَرْفاً و وَرِيفاً و وُرُوفاً: (سایہ کا) پھیلنا، لمبا ہونا، (پودے کی) کونپل پھوٹنا، پودے کا سبز ہونا، سرسبز ہونا، ہرا بھرا ہونا، پھولنا، پھلنا، بہار پر آنا۔ وَرَّفَ و اَوْرَفَ: سایہ کا پھیلنا، لمبا ہونا۔ وَارِف: پھیلا ہوا، دراز (سایہ)، سبز، سرسبز ہرا بھرا، بہار پر آیا ہوا، پھولا پھلا۔

ورق: اَوْرَقَ يَرِقُ وَرْقاً الشجرُ: درخت کا پتے دار ہونا۔ ـــ الشجرَ: درخت کے پتے اُتارنا۔ وَرَّقَ الشجرُ: درخت کا پتے دار ہونا۔ ـــ الشجرَ: درخت کے پتے اتارنا۔ اَوْرَقَ الشجرُ: درخت کا پتے دار ہونا۔ ـــ الرجلُ: بہت مال دار ہونا۔ ـــ الطالبُ: اپنا مطلوب نہ پانا۔ ـــ الصائدُ: شکاری کو شکار نہ ملنا۔ ـــ الغازي: مال غنیمت سے محروم ہونا، مال غنیمت پانا (ضد)۔ تَوَرَّقَ الظبيُ: ہرن کا پتے کھانا۔ اِيراقٌ و اوراقٌ يَوْرَاقُّ ايريقاقاً العنبُ: انگور کا رنگ پکڑنا۔ صفت: مُورَاقّ۔ الوَارِق و الوَرِيق من الشجر: پتے دار درخت، بہت پتوں والا درخت، خوبصورت پتوں والا درخت۔ شجرة وَارِقَة و وَرِيقَة: بہت خوبصورت و سبز پتوں والا درخت۔ الرِقَة: نصی گھاس کی ابتدائی سرسبزی، گرمی کے موسم کی بارش کے بعد سرسبز زمین۔ ـــ جمع رِقُون: درہموں کے سکے۔ الوَرِق و الوِرْق و الوُرْق جمع اَوْرَاق و وِرَاق: روپیہ پیسہ (سکے کی شکل میں)۔ الوَرَق: ہر زندہ حیوان، (روپیہ پیسہ کی شکل میں) مویشی زمین پر پڑے ہوئے خون وغیرہ کا گول ٹکڑا۔ وَرَقُ الكتاب: کتاب کا ورق۔ واحد وَرَقَة جمع وَرَقات۔ وَرَقُ الشباب: جوانی کی شادابی۔ وَرَق: خوبصورتی، چمک دمک، آب و تاب اور خوش قامتی سے استعارہ کے طور پر بھی آتا ہے۔ الوَرَقَة (ز): پتہ (درخت نباتات کا) ـــ عند المكلّسين: کوٹ (coating) پلستر (اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں: وَرَّقَ الحائطَ: اس نے دیوار پر پلستر کیا، کہگل کیا)۔ الوَرِق: درہموں کے سکے، روپیہ پیسہ۔ جمع اوراق و وِرَاق۔ ـــ من الشجر: پتے دار درخت، بہت پتوں والا درخت، خوبصورت پتوں والا درخت۔ شجرة وَرِقَة: بہت سبز اور خوبصورت پتوں والا درخت۔ الوُرْقَة في القوس: کمان کا نقص۔ الوَرَاق: گھاس سے زمین کی سرسبزی۔ الوِرَاق: پتوں کے نکلنے کا وقت۔ الوِرَاقَة: کاغذ سازی کا پیشہ۔ الوَرَّاق: کاغذ والا، کاغذ بیچنے والا، کاغذ بنانے والا، کاتب، بہت روپے پیسے والا۔ کہا جاتا ہے: التجارةُ مُورِقَةٌ للمال: تجارت دولت مند بنانے والی چیز ہے۔ المُوَرِّق (فا): کاغذی کاغذ والا، کاغذ بنانے والا (ب): پلستر کرنے والا، سفیدی کرنے والا۔

۲۔ الوُرْقَة: میالا رنگ۔ الأَوْرَق م وَرْقاء جمع وُرْق: خاکستری رنگ کا، راکھ کے رنگ کا۔ عامٌ اَوْرَقُ: خشکی کا سال۔ زمانٌ اَوْرَقُ: قحط کا زمانہ۔ الوَرْقاء جمع وَرَاقٍ و وَرَاقَى: اورق کا مونث: فاختہ (ن): ایک چوڑے گول نرم پتوں والا درخت۔ (ح): مادہ بھیڑیا۔

ورَّقَ: پتے نکلنا، پھوٹنا، سوئے نکلنا، شاخیں نکالنا۔ ۵: (کتاب کے) ورق پلٹنا، (دیواروں پر) آرائشی کاغذ لگانا۔ اَوْرَقَ: پتے نکلنا، پھوٹنا، سوئے نکلنا، شاخیں نکالنا (درخت پودوں کا)۔ وَرَق: اسم جمع واحد وَرَقَة جمع اَوْرَاق: پتے، کاغذ، نوٹ، زر کاغذ، بنک نوٹ، پتلی چادر کی دھات، تہہ بتہہ دھات۔ ورق تمغة: سٹامپ یا ٹکٹ لگا کاغذ۔ ورق الرسم: ڈرائنگ کا کاغذ۔ ورق مُزَرْكَش: دیواری کاغذ، دیواری پردے۔ ورق السَنْفَرة: ریگمال ورق الشاهدة: کاربن پیپر۔ ورق مَطْبُوع: سٹام، مہر یا ٹکٹ لگا کاغذ۔ ورق عَادِم: ردی کاغذ۔ ورق مُقَوًّى: کارڈ بورڈ، دفتی گتا۔ ورق الكتابة: لکھنے کا کاغذ۔ ورق اللعب: تاش کے پتے۔ ورق اللف: لپیٹنے کا کاغذ۔ ورق نشّاش یا نشّاف: بلاٹنگ پیپر، ورق نقدي: نوٹ، زر کاغذی۔ ورق اليانصيب: لاٹری ٹکٹ۔ اوراق الأشغال: تجارتی کاغذات۔ اوراق الاعتماد: کاغذات نمائندگی، مراسلہ تعارف تصدیق نامہ (credentials)۔ اوراق الحكومة: حکومتی بونڈز۔ اوراق القضية: عدالتی ریکارڈ۔ اوراق مالية: نوٹ، زر کاغذی۔ اوراق نقدية و ورق النقد: بنک نوٹ، نوٹ، زر کاغذی۔ حِبْرٌ على ورق: کاغذ پر صرف سیاہی، بے نتیجہ (معاہدہ وغیرہ)۔ طرح الاوراق على المائدة: کارڈ میز پر رکھنا، اپنے منصوبے ظاہر کرنا۔ وَرَقَة: پتہ، پتی، کاغذ کا تختہ سلپ، نوٹ، کارڈ، ٹکٹ، دستاویز، ریکارڈ، کاغذ، دھات کی پتلی چادر۔ ورق البريد: پوسٹ کارڈ۔ ورق البنك: بینک نوٹ۔ ورقة مدموغة: سٹامپ لگا کاغذ۔ ورقة لعب: تاش کا پتہ۔ ورقة مالية: بینک نوٹ، بونڈ، سیکورٹی۔ ورقة الاتّهام: فرد جرم۔ نقود ورقية: نوٹ، زر کاغذی۔ وَرِق: پتے دار، سبز ہرا بھرا، بہار پر آیا ہوا۔ وَرَّاق: کاغذ بنانے والا، سٹیشنر (stationer) سامان کتابت بیچنے والا)، ردی فروش، نقل نویس۔ وِرَاقَة: کاغذ سازی، سٹیشنری کا کاروبار، سامان کتابت بیچنے والے کا پیشہ۔ مُوَرِّق: سامان کتابت بیچنے والا۔ وَارِق: بمعنی وَرِق۔ مُورِق: پتے دار۔

ورك: اَوْرَكَ يَرِكُ وَرْكاً: سرین پر سہارا لینا۔ ـــ الرجلَ: کے سرین پر مارنا۔ ـــ الشيءَ: کو سرین کے مقابل کرنا۔ ـــ وُرُوكاً: ایک پہلو پر ٹیک لگانا، زمین پر سرین رکھ کر لیٹنا۔ ـــ الراكبُ: اترنے یا آرام لینے کے لئے سرین کو موڑنا۔ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ وَرِكَ يَوْرَكُ وَرَكاً تِ الوَرِكُ:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کولہے کا بڑا ہونا۔ وَرَّكَ الحبلَ او الرَّحْلَ: رسّی یا کاٹھی کو سرین کے مقابل کرنا۔ ــ الراكبُ: دوزانو بیٹھنے والے کی طرح ٹانگوں کو موڑنا اور سرین کو کاٹھی پر رکھنا۔ تَوَرَّكَ: سرین پر سہارا لینا۔ ــ الشیءَ: چیز کو سرین پر رکھنا۔ ــ الراكبُ: اترنے یا آرام کرنے کے لئے سوار کا اپنی ٹانگوں کو موڑنا۔ ــ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ــ عن الأمر: میں دیر کرنا۔ ــ للرحْلِ: کی ٹانگوں کو باندھنا۔ کہا جاتا ہے: تَوَرَّكَ لَهُ فصَرعَهُ: اس نے اس کی ٹانگوں کو باندھ کر زمین پر پٹک دیا۔ تَوَارَكَ: سرین پر سہارا لینا۔ الوَرْك والوَرِك (مؤنث) جمع أوْراك: سرین، چوتڑ۔ کہا جاتا ہے: قعد الملاّحُ على وَرِك السفينة: ملاح کشتی کے پچھلے حصہ پر بیٹھا۔ هُم علَى وَرْكٌ واحدٌ: وہ میرے خلاف اکٹھے ہوگئے۔ الوَرْك کمان کا کنارہ یا تانت باندھنے کی جگہ۔ ــ (مؤنث) جمع أوْراك (ع ا): سرین، چوتڑ۔ الوارِك و الوِرك جمع وُرْك و المَوْرِك و المَوْرِكة من الرَّحْلِ: کجاوہ کا وہ حصہ جس پر سوار تھک کر پاؤں رکھتا ہے۔ الوَرْكَى: خبر کی اصلیت۔ کہا جاتا ہے: ان عنده لَوَرْكَى الخبر: یقیناً اس کے پاس خبر کی اصلیت ہے۔ الأَوْرَك م وَرْكاء جمع وُرْك: بڑے سرین والا۔ المِوْرَك: کجاوہ کا اگلا حصہ۔ المِوْرَكة: کجاوہ کا اگلا حصہ، وہ گدی جیسی چیز جس کو سوار اپنے سرین کے نیچے رکھتا ہے۔

۲۔ وَرَكَ يَرِكُ وُرُوكًا على الامر: پر قادر ہونا۔ وَرَّكَ على الامر: پر قادر ہونا۔ ــ الشیءَ: کو واجب کرنا۔ ــ الذَّنْبَ عليه: پر گناہ کا الزام لگانا۔ ــ اليمينَ: قسم میں قسم کھلانے والے کے خلاف نیت کرنا۔ وَارَكَ مُوَارَكةً الجبلَ: پہاڑ سے گزرنا۔ تَوَرَّكَ على الأمر: پر قادر ہونا۔ المُوَرَّك (مفع): کہا جاتا ہے: انه لمُوَرَّكٌ فی هذا الامر: وہ اس معاملہ میں بے قصور ہے۔

○ وَرْك، وِرْك، وَرِك (مؤنث) جمع أوْراك: کولہا، پٹھا، ران، جانگھ۔

ورل: الوَرَل مؤنث وَرَلة جمع وِرْلان و أوْرال و أَرْوُل (ح) گوہ کے مانند ایک جانور۔

○ وَرَل جمع وِرلان و اورال: ایک قسم کی آبی چھپکلی جو مگرمچھ کے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔

ورم: وَرِمَ يَرِمُ وَرَمًا و تَوَرَّمَ الجلدُ: جلد کا سوجنا صفت: وَارِم۔ ــ انفُ فلان: غضبناک ہونا۔ ــ النبتُ: نباتات کا دراز اور موٹا ہونا۔ وَرَّمَ الجلدَ: جلد کو متورم کرنا۔ ــ انفَ فلان: کو غضبناک کرنا۔ ــ بأنفه: تکبر کرنا۔ أوْرَمَ إيراماً فلاناً و بفلان: کو غضبناک کرنے والی باتیں سنانا۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَ بِهِ ما أوْرَمَهُ: اس نے اسے ناراض کرکے غضبناک کیا۔ الوَرَم (مص) جمع أوْرام: سوجن۔ الأَوْرَم: لوگ یا بہت لوگ۔ کہا جاتا ہے: ما أدْرِي اى الأَوْرَم هو: میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ المَوْرِم: مسوڑھا۔ المُوَرَّم (مفع): قوی ہیکل آدمی۔

○ وَرَم جمع أوْرام: سوجن، ورم، آماس، گومڑا، سخت ابھار، گلٹی، دنبل۔ فی انفِهِ ورم: وہ مغرور ہے، متکبر ہے، خود پسند ہے۔ تَوَرُّم: سوجن، ابھار۔ وارم: سوجا ہوا۔ مُوَرَّم: سوجا ہوا متورم۔

ورن: ۱۔ وَارَنَ مُوَارَنَةً ہٗ: کے آمنے سامنے ہونا، مقابل ہونا۔ تَوَرَّنَ: بہت تیل ملنا، نازونعم میں پلنا۔

۲۔ الوَرَنْك (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

○ وَرَن: ایک قسم کی آبی چھپکلی جو مگرمچھ کے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔

○ وَرْنَشَ ہ: پروارنش کرنا (فرنیچر وغیرہ) پر سنہری پالش لگانا، جاپان وارنش کرنا۔ وَرْنِيش: وارنش، سنہری پالش، جاپانی روغن، بوٹ پالش۔ وَرْنِيش الأرضية: فرش پر لگانے والی موم۔

ورہ: وَرِهَ يَوْرَهُ وَرَهًا: بے وقوف ہونا، صفت: أوْرَه م وَرْهَاء۔ ــ تِ الريحُ: ہوا کا بہت چلنا۔ وَرِهَ يَرِهُ وَرَهَاتِ المرأةُ: عورت کا چربی دار ہونا صفت: وَرِهَة۔ تَوَرَّهَ فلانٌ فی عمل هذا الشیء: کو مہارت سے نہ کرنا۔ الوَارِهُ: کشادہ، فراخ۔ الوَرِهُ من السحاب: بہت بارش برسانے والا بادل۔

○ وِرْوَار: شہد کی مکھیاں کھانے والا جانور۔ وَرْوَار۔

○ أوْرَه مونث وَرْهاء: بے وقوف، گونگا، بے زبان، خوف زدہ، ستم رسیدہ، گستاخ، شوخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا۔

وری: ۱۔ وَرَى يَرِى وَرْيًا الرجُلَ: کے پھیپھڑے پر مارنا۔ القيحُ جوفَهُ: پیپ کا کے شکم کو خراب کرنا، گلانا، اسم: الوَرَى۔ وُرِيَ الرجُلُ: کے پھیپھڑے میں پیپ پڑنا، صفت: مَوْرُوٌّ و مَوْرِيٌّ۔ الوَرْيُ (مص): پیٹ کی پیپ یا پھیپھڑوں کی نالی کا زخم۔ الوَرَى: وَرْی کا اسم۔

۲۔ وَرَى يَرِى وَرْيًا و رِيَةً ت النارُ: آگ کا جلنا۔ ــ و وَرَى يَرِى وَرْيًا وُرِيًّا و رِيَةً الزندَ: چقماق کا آگ نکالنا۔ صفت: وارٍ۔ وَرَّى تَوْرِيَةً النارَ: آگ نکالنا۔ أوْرَى الزند: چقماق سے آگ نکالنا۔ اِسْتَوْرَى الزندَ: چقماق سے آگ نکالنا۔ کہا جاتا ہے: استوريتُهُ رأيَهُ: میں نے اس سے اس کی رائے دریافت کی۔ الزندُ الوارِي والوَرِي: آگ نکالنے والا چقماق۔ رِيَةُ النارِ و وَرْيَتُها: آگ سلگانے کا چیتھڑا وغیرہ

۳۔ وَرَى يَرِى وَرْيًا و رِيَةً تِ الابلُ: اونٹ کا موٹا اور چربی دار ہونا۔ وَرِيَ يَرِى وَرْيًا المخُّ: گودے کا ٹھوس ہونا۔ وَرَّى تَوْرِيَةً الشیءَ: کو چھپانا۔ ــ عن كذا: حقیقت کو چھپانا۔ ــ الخبرَ و عن الخبرِ: کو پیچھے کرنا اور چھپانا۔ ــ عن فلان بصرَهُ: سے آنکھ پھیر لینا۔ وَارَى مُوَارَاةً الشیءَ: کو چھپانا۔ تَوَرَّى تَوَرِّيًا و تَوَارَى تَوَارِيًا عنه: سے چھپنا۔ الوَارِي: موٹی چربی۔ الوَرَاء: دیکھو مادہ وراً۔ الوَرِي: موٹی چربی، کمزور، پڑوسی، مہمان۔ لحمٌ وَرِيٌّ: موٹا گوشت۔

۴۔ الوَرَى: مخلوق۔ ابُو الوَرَى: زمانہ

○ وَرَى يَرِى وَرْيًا: جلنا، سلگنا، مشتعل ہونا، جل اٹھنا، بھڑک اٹھنا، آگ لگنا۔ وَرِّى: بمعنی وَرَى يری و وريا نیز وَرَّى: رگڑ سے آگ جلانا۔ ــ ہ: کو چھپانا، مخفی رکھنا، چھپا رکھنا۔ ــ عن ب: کو سے اشارہ کرنا، کو سے تلمیح کرنا، کنایہ کرنا۔ ــ ب: کا بہانہ کرنا، کچھ بننا، کا حیلہ کرنا، تصنع کرنا، کا جھوٹا اظہار کرنا۔ وَارَى ہ: کو مخفی رکھنے کی کوشش کرنا۔ ــ ہ ہ: کو میں چھپانا۔ ــ ہ: کو چھپانا، کو نقاب سے ڈھانپنا۔ وَارَاهُ الترابَ: کو دفن کرنا، کو قبر میں اتارنا، کو ک مٹی دینا۔ أوْرَى: بمعنی وَرَى يری: رگڑ سے آگ جلانا۔ تَوَرَّى عن/من: اپنے آپ کو سے چھپانا۔ تَوارَى: (بمعنی تَوَرَّى) ــ عن/عن الانظار: کی نظروں سے اوجھل ہوجانا۔ الوَرَى: انسان، فانی انسان۔ خيرُ الوَرَى: سب مردوں سے افضل، رسول کریمؐ۔ وَرَاءَ ــ: کے پیچھے، کی پشت پر، کے بعد، کے پار، کے دوسری طرف، کی دسترس سے باہر، کی طاقت سے باہر، سے باہر، سے اوپر، کے پاس سے ہوکر آگے، پاس سے آگے، کے علاوہ، مزید برآں، علاوہ ازیں۔ وَرَاءُ: پیچھے، عقب میں۔ الی الوراء: پیچھے۔ كَانَ وَرَاءَ ہٗ: کے پیچھے کھڑا ہونا، کا طرف دار ہونا، کی حمایت کرنا، تائید کرنا، کی مدد کرنا۔ ماوراءَ الأردن: دریائے اردن سے پرے۔ ماوراءَ الاكمة؟: اس کی تہہ میں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وراءَ الأكَمةِ ماوراء ها: کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، بات کچھ اور ہے۔ ماوراء البحر: سمندر پار، پردیس۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ماوراء الطبیعۃ: مافوق الفطرت، ماورائی، مابعد الطبیعات، الٰہیات مِن وَرَاءِ ــــ کے پیچھے، کے پیچھے سے، کے پار، کے دوسری طرف، کی دسترس سے باہر، کی طاقت سے باہر، سے باہر، سے اوپر، کے پاس سے ہوکر آگے، کے علاوہ، کے ذریعے التکسب من وراء الدعارۃ: پیشہ ورانہ طوائفیت کان من وراء مقدرۃ العقل البشری: انسان کی قوت فہم کی دسترس سے باہر ہونا وَرَائِی: پیچھے کا، پیچھے، پیچھے واقعہ، پیچھے کا رخ کئے ہوئے اَوْرَیٰ لِ: کو بہتر طور پر چھپانے والا تَوْرِیَۃ: چھپانا، ایک بات کو دوسری کے پردے میں چھپانا، زمانہ سازی، مکاری، ریاکاری، منافقت، فریب، مکر، ریا، گول مول بات، ابہام، ہیر پھیر، لفظی ہیر پھیر، ذومعنی لفظ، تلمیح، کنایہ۔

وزّ الوَزّ مونث وَزَّۃ جمع وَزَّات: بط۔ (الاِوَزّ کے بجائے) اَرْضٌ مَوَزَّۃ: بہت بطوں والی زمین۔

٢ وَزْوَزَ وَزْوَزَۃ: جسم کو ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلنا، جلدی کودنا الوَزْوَاز: جسم کو حرکت دیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنے والا ــــ والوَزَاوِزَۃ: اوچھا پست قد آدمی، ایک پرندہ المُوَزْوِز (فا): گانے والا، چہچہانے والا۔

٣ وَزَّ ــ وَزًّا ہ علی: کو کے خلاف اکسانا اَوَزَّ بمعنی وَزَّ۔

وزأ وَزَأَ یَزَأُ وَزْءًا اللحمَ: گوشت کو خشک کرنا۔

٢ وَزَّأَ یُوَزِّئُ وَزْءًا القومَ: بعض کا بعض کو ہٹانا ــــ القومُ: بعض کو بعض سے ہٹانا وَزَّأَ تَوْزِئَۃ و تَوْزِیئًا الفرسُ براکِبِہ: گھوڑے کا اپنے سوار کو گرانا ٣ وَزَّأَ تَوْزِئَۃ و تَوْزِیئًا فلانًا: سے سخت قسم کھلانا ٤ وَزَّأَ تَوْزِئَۃ و تَوْزِیئًا القِربۃ: مشک بھرنا تَوَزَّأَ الوعاءُ: برتن کا بھر جانا ــ الرجلُ: خوشنمائی میں بھرپور ہونا۔

وزب وَزَبَ یَزِبُ وُزُوبًا الماءُ ونحوُہٗ: پانی وغیرہ کا بہنا اَوْزَبَ اِیزَابًا فی الأرض: پانی کی طرح زمین میں چلا جانا الوَزَّاب: ماہر چور المِیزاب و المِئزاب جمع مَیَازِیب و مَآزِیب: (کبھی مَوَازِیب بھی کہا جاتا ہے): پرنالہ (فارسی لفظ)۔

مِیزاب جمع مَیازِیب: پرنالہ، نالی، سڑک کی نالی، گندہ نالہ، بدرو اِنفتحت مَیازِیبُ السماء: آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے۔

وزر وَزَرَ یَزِرُ وَزْرًا و وِزْرًا الشیءَ: چیز کو اٹھانا ــ الرجلُ: بوجھل چیز اٹھانا ــ وَزْرًا الرجلَ: پر غالب آنا ــ وَزَارَۃً للملکِ: ملک کا وزیر ہونا ــ و وَزِرَ یَوْزَرُ وَزْرًا و وِزرًا و وِزْرَۃً: گنہگار ہونا۔ وُزِرَ وَزْرًا و وِزرًا و وِزْرَۃً: گنہگار ہونا ــــ فلانٌ: پر گناہ کا الزام لگایا جانا آزَرَ مُوَازَرَۃً ہٗ علی الأمر: کو کام میں مدد دینا، قوت پہنچانا ــ ہٗ: کی مدد کرنا کا وزیر ہونا اَوْزَرَ اِیزَارًا الشیءَ: کو لے جانا تَوَزَّرَ لَہٗ: کا وزیر ہونا اِتَّزَرَ: چھوٹا کمبل اوڑھنا، گناہ کرنا ــ بثوبہ: کپڑے کو چھوٹے کمبل کی طرح اوڑھنا اِستَوزَرَہٗ: کو اپنا وزیر بنانا ــ الشیءَ: کو لیجانا الوِزْر (مص) جمع اَوْزار: گناہ، بوجھ، بھاری بوجھ، کپڑوں کی گٹھری اوزار الحرب: جنگ کا ساز و سامان اور ہتھیار۔ کہا جاتا ہے وضعت الحرب اوزارھا: لڑائی ختم ہوگئی الوِزْرَۃ جمع وِزْرَات و وِزَرات و وِزْرَات: چھوٹا کمبل الوَزارۃ و الوِزَارۃ: وزیر کا عہدہ اور مدت الوَزِیر جمع وُزَراء و أوزار: وزیر وزیر العدلیۃ: وزیر انصاف۔ وزیر الداخلیۃ: وزیر داخلہ وزیر الخارجیۃ: وزیر خارجہ المَوْزُور (مفع): گناہ کا مرتکب، گناہ سے متہم۔

٢ وَزَرَ یَزِرُ وَزْرًا الثُلمۃَ: رخنہ بند کرنا اَوْزَرَ اِیزَارًا الرجلَ: کو پناہ دینا ــ الشیءَ: کو چھپانا، کو محفوظ کرنا الوَزَر: جائے پناہ، اونچا پہاڑ، گڑھ، مرکز۔

وَزَرَ یَزِرُ وِزْرًا ہٗ: (بوجھ) اٹھانا وَزَرَ یَزِرُ و وَزِرَ یَوْزَرُ وِزرًا و وِزرۃً: گناہ کا ارتکاب کرنا۔ وَازَرَہٗ علی: میں کی مدد کرنا آزَرَہٗ: کی تائید کرنا، حمایت کرنا، کی پشت پناہی کرنا، کے بازو مضبوط کرنا۔ تَوَازَرَ: ایک دوسرے کی مدد کرنا اِتَّزَرَ: لنگوٹ باندھنا، گناہ کرنا ــ ہٗ: لباس پہننا وِزْر جمع اَوْزار: بوجھ، بھاری بوجھ، بار، گناہ، جرم، ذمہ داری۔ حَمَّلَہٗ وِزرَہٗ: کو کی ذمہ داری برداشت کرانا، کو کے لئے جوابدہ قرار دینا وِزْرَۃ جمع وِزَرَات: لنگوٹی، لنگوٹ وِزَرَۃ جمع وِزَرات: لہنگا، لہنگے کا کپڑا۔ تَوَزَّرَ: وزیر بن جانا اِستَوزَرَہٗ: کو وزیر بنانا۔ اِسْتَوْزَرَ: وزیر مقرر ہونا وَزِیر جمع وزراء: (کیبنٹ) وزیر، ملکہ (شطرنج میں) وَزِیرٌ بلا وزارۃ: قلمدانِ وزارت کے بغیر وزیر وَزِیرٌ مُفَوَّض: مدار المہام (minister plenipotentiary) وزیر مقیم: ریزیڈنٹ وزیر الوزیر الاکبر: وزیر اعظم رئیس الوزراء: وزیر اعظم مجلس الوزراء: کیبنٹ (cabinet) وِزَارۃ (جمع وِزَارات): وزارت، کیبنٹ، حکومت وزارۃ الارشاد القومی: قومی رہنمائی کی وزارت وزارۃ الاستعلامات: وزیر اطلاعات وزارۃ الاشغال العمومیۃ: پبلک ورکس کی وزارت وزارۃ الاوقاف: وزارت اوقاف وزارۃ البحریۃ: وزارت بحریہ وزارۃ التجارۃ: وزارت تجارت وزارۃ التربیۃ: وزارت تعلیم وزارۃ الحربیۃ: وزارت جنگ وزارۃ الحقانیۃ: وزارت انصاف وزارۃ الخارجیۃ: وزارت خارجہ وزارۃ الداخلیۃ: وزارت داخلہ۔ وزارۃ الزراعۃ: وزارت زرعات وزارۃ الشؤون الاجتماعیہ: وزارت سماجی بہبود وزارۃ الشؤون البلدیۃ و القرویۃ: وزارت امور شہری و دیہاتی۔ وزارۃ الصحۃ العمومیۃ: عوامی صحت کی وزارت، وارت صحت وزارۃ الطیران: وزارت فضائیہ وزارۃ العدلیۃ یا وزارۃ العدل: وزارت انصاف وزارۃ المالیۃ: وزارت خزانہ وزارۃ المعارف: وزارت تعلیم وزارۃ المواصلات: وزارت مواصلات۔ وِزاری: وزارتی۔

وزع وَزَعَ یَزَعُ و یَزِعُ وَزْعًا الجیشَ: فوج کو ترتیب وار صفوں میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے رأیتُہٗ یَزَعُ الجیشَ: میں نے اسے فوج کو لڑائی کے لئے ترتیب اور صفوں میں رکھتے دیکھا ــــ فلانًا و بفلانٍ: کو روکنا، منع کرنا اَوْزَعَ بینھما: کے مابین صلح کرانا۔ اِتَّزَعَ: رکنا، باز رہنا الوَازِع جمع وَزَعَۃ و وُزَّاع: فوج کے معاملات کا انتظام کرنے والا، جہاز چلانے والا، کتا الوَزَعَۃ: وازع کی جمع، بادشاہ کے مددگار و محافظ۔ محارم اللہ تعالیٰ سے باز رکھنے والے حکام المُتَّزِع (فا): ثابت قدم، سخت جان۔

٢ وَزِعَ یَوْزَعُ و یَزِعُ وَزْعًا و وُزُوعًا فلانًا بفلانٍ: کو کے خلاف بھڑکانا اَوْزَعَہٗ بکذا: کو پر ورغلانا۔ صفت مُوزَع ـــ الشیءَ: کو کا الہام کرنا اِسْتَوْزَعَ اللّٰہَ شکرَہٗ: خدا تعالیٰ سے شکر کی توفیق چاہنا۔

٣ وَزَّعَ المالَ بینھم: مال کو لوگوں کے درمیان پراگندہ کرنا ــ المالَ علیھم: مال کو لوگوں میں تقسیم کرنا اَوْزَعَ المالَ: مال تقسیم کرنا ــــ بینھما: کے درمیان تفریق کرنا تَوَزَّعَ: متفرق ہونا ــ القومُ المالَ: لوگوں کا مال کو آپس میں تقسیم کرنا۔ کہا جاتا ہے تَوَزَّعَتْہُ الافکارُ: اس نے کبھی اس کی فکر کی کبھی اس کی تَوَزَّعُوا ضیوفَھم: وہ مہمانوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے گئے۔ الأَوْزاع: جماعتیں (اس کا واحد نہیں آتا)۔

وَزَعَ یَزَعُ وَزْعًا ہٗ: کو قابو میں رکھنا وَزَّعَ ہٗ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

علی بین: کو کے درمیان تقسیم کرنا۔ ــ ہ علی السی: کو کے لئے مختص کرنا، کو کے نام الاٹ کرنا، کا حصہ کسی کو دینا، کو میں بانٹنا، تقسیم کرنا۔ ــ ہ(ڈاک) بانٹنا، تقسیم کرنا۔ وُزِّعَ بین کے درمیان تقسیم کیا جانا۔ تَوَزَّعَ: تقسیم کیا جانا، آپس میں تقسیم کرنا۔ ــ ہ پر ٹوٹ پڑنا اور اس کو سخت اذیت دینا (پریشانیوں، خیالات دکھوں کا)۔ اَوْزاع لوگوں کے گروہ یا ہجوم۔ کے گروہ۔ وَزِیعَۃ جمع وَزائع حصہ، الاٹ منٹ۔ تَوزِیع تقسیم (فلم انڈسٹری میں بھی)، الاٹ منٹ تقسیم (خطوط وغیرہ کی) فروخت، مارکیٹ۔ تَوزِیعُ الثروۃ تقسیم دولت۔ توزیع العمل تقسیم کار۔ توزیع الجوائز تقسیم انعامات۔ توزیع الارباح منافعوں کی تقسیم یا ادائیگی۔ توزیع مُستَعجَلٌ (ڈاک کی) غیر معمولی یا فوری تقسیم/ترسیل۔ وَازِع: رکاوٹ، مزاحمت۔ مُوَزِّع: تقسیم کنندہ، تقسیم کار۔ مُوَزِّع البرید ڈاکیہ۔ مُوَزَّع: تقسیم کیا ہوا، پراگندہ، بکھرا ہوا، منتشر۔ مُوَزَّعُ الخواطر یا مُوَزَّعُ الفکر خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل، پراگندہ دماغ، غم سے پاگل۔

وزغ: وَزَغَ یَزِغُ وَزْغًا و أَوْزَغَ ببوله: پیشاب تھوڑا تھوڑا گرانا، پیشاب رک رک کر کرنا۔ أَوْزَغَت الطعنۃ بالدم نیزے کے گھاؤ سے خون تھوڑا تھوڑا نکلا۔ وَزَغَ الجنینُ بچہ کا پیٹ میں صورت اختیار کر کے حرکت کرنا۔ الوَزَغ: کپکپی، رعشہ، بزدل آدمی۔ الوَزَغۃ جمع وَزَغ و وِزاغ و أَوْزاغ و وِزْغان و إِزْغان (ج) ایک قسم کی چھپکلی۔ الأَوْزاغ کمزور لوگ۔

وزف: وَزَفَ یَزِفُ وَزْفًا و وَزِیفًا: جلدی کرنا۔ ــ وَزَّفَ فلانًا: سے جلدی کرانا۔ وَزَّفَ تَوْزِیفًا و أَوْزَفَ إِیزافًا: جلدی کرنا۔ وَازَفَ مُوَازَفَۃً و تَوَازَفَ تَوَازُفًا القومُ: ایک دوسرے کے نزدیک ہونا۔

وزل: الوَزّال (ن) سینک قسم کی جھاڑی۔

وزم ۱۔ وَزَمَ یَزِمُ وَزْمًا فلانًا بفیہ: کو منہ سے ہلکا سا کاٹنا۔ ــ الشیءَ: کو توڑنا۔ وُزِمَ وَزْمَۃً فی مالہ: مال میں نقصان اٹھانا۔ الوَزْم: سبزی کا گٹھا، عقاب کا اپنے گھونسلے میں جمع کیا ہوا گوشت۔ الوَزّام بہت گوشت اور پٹھوں والا۔ الوَزِیم: گوشت کا خشک ٹکڑا۔ بڑا چوہا۔ ــ والوَزِیمَۃ: سبزی کا گٹھا، عقاب کا اپنے گھونسلے میں جمع کیا ہوا گوشت۔ رجُلٌ وَزِیمٌ: گٹھے ہوئے گوشت والا آدمی۔

۲۔ وَزَمَ یَزِمُ وَزْمًا و وَزَّمَ نفسَہُ: دن میں ایک بار کھانا۔ الوَزْم (مص) مقدار۔ الوَزْمَۃ: دن میں ایک بار کا کھانا۔ مقدار۔

۳۔ وَزَمَ یَزِمُ وَزْمًا الدَّیْنَ: قرض ادا کرنا۔ الوَزْم اپنے وقت پر آنے والا کام۔

۴۔ تَوَزَّمَ: بہت روندنے والا ہونا۔

۵۔ الوِزام: سرعت۔ الوَزِیم عند ارباب علم النباتات: نباتات میں پھولوں درختوں وغیرہ میں مونث عضو۔ الوَزِیمَۃ (ن) امریکہ کا ایک درخت جس کے گچھے چاندی رنگ کے ہوتے ہیں، کئی میٹر لمبے تنے ہوتے ہیں۔ خودرو ہے اور آرائش کے لئے بھی اُگایا جاتا ہے۔

وزن ۱۔ وَزَنَ یَزِنُ وَزْنًا و زِنَۃً الشیءَ: کو تولنا، کا وزن کرنا۔ کہا جاتا ہے: هذا یَزِنُ رطلاً: اس کا وزن ایک رطل ہے۔ (انگلستان میں ۴۴۹،۲۸ گرام، شام میں ۳،۲۰۲ کیلوگرام بیروت میں ۲٫۵۶۶ کیلوگرام کے برابر وزن کا پیمانہ)۔ ــ لہ الدراهم و غیرها: کو روپیہ وغیرہ وزن کر کے دینا۔ ــ الشِعْرَ: شعر کی تقطیع کرنا۔ وَزُنَ یَوْزُنُ وَزانَۃً الشیءُ: بھاری ہونا، بوجھل ہونا۔ صفت: وازِن۔ ــ الرجُلُ: پختہ رائے ہونا۔ وَزَّنَ و أَوْزَنَ نفسَہُ علی کذا: پر اپنا دل لگانا یا مشغول کرنا۔ وَازَنَ وِزانًا و مُوَازَنَۃً ہ: کو اس کے کاموں کا بدلہ دینا، کے سامنے ہونا یا مقابل ہونا، وزن میں کے برابر ہونا۔ ــ بینَ الشیئین: وزن معلوم کرنے کیلئے دو چیزوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ تَوَازَنَ الشیئان: باہم برابر ہونا۔ اِتَّزَنَ: تُلنا۔ ــ الدراهمَ: درہموں کو پرکھنا۔ ــ العِدلُ: گٹھری کا دوسری کے برابر ہونا۔ ــ الشیءَ: کو وزن کر کے لینا۔ الوَازِن: فا۔ درهمٌ وَازِنٌ: پورے وزن کا درہم۔ الوَزْن (مص) جمع اَوْزان: مثقال۔ هذا درهمٌ وَزْنٌ: یہ درہم سرکاری وزن کا ہے۔ هذا رجُلٌ راجحُ الوزن: یہ کامل عقل و رائے والا آدمی ہے۔ هو وَزْنَ الشیءِ اوزِنَۃَ الشیءِ او وِزانَ الشیءِ و بِوِزانِہِ او بِوِزانَتِہِ: وہ اس کے سامنے ہے یا وزن میں اس کے برابر ہے۔ هو وزنَ الجبل: وہ پہاڑ کی جانب میں ہے۔ الوَزْنَۃ: وزن کا اسم مرہ، بوجھ، کامل عقل و پختہ رائے والی عورت۔ ــ عند اهالی لبنان تین رطل۔ کہا جاتا ہے: ما أَکُلُہُ فی الیوم إلاَّ وَزْنَۃً واحدۃً: وہ دن میں ایک بار کھانا کھاتا ہے۔ الوِزْنَۃ: وزن کی قسم۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ وَزِینُ الرأی: فلاں شخص سنجیدہ رائے والا ہے۔ الأَوْزَن: اسم تفضیل، زیادہ وزن دار۔ کہا جاتا ہے: هذا القولُ اَوْزَنُ من غیرہ: یہ قول دوسرے سے زیادہ قوی ہے (اس سے زیادہ وزن دار ہے)۔ هو اوزنُ القوم: وہ قوم کا وجیہ ترین ہے، قوم میں سب سے زیادہ ذی وجاہت ہے۔ المَوْزُونَۃ: پستہ قد عقل مند عورت۔ المِیزان جمع مَوازِین: ترازو، مقدار، پیمانہ، حساب کی درستی جانچنے کا طریقہ جیسے جمع و ضرب۔ انصاف۔ اِستقامَ میزانُ النهار: دن آدھا ہو گیا۔

۲۔ الوَزِین: اندرائن کے پسے ہوئے دانے۔

Ⓒ وَزَنَ یَزِنُ وَزْنًا و زِنَۃً ہ: کو تولنا، کا وزن کرنا، کا مقابلہ کرنا، کو ہم پلہ کرنا، کو برابر کرنا، مساوی کرنا۔ کے وزن کا ہونا۔ ــ ہ ل: کوئی چیز کسی کو وزن کر کے دینا، فروخت کرنا۔ وَازَنَ ہ: کا ہم وزن ہونا، کو وزن میں برابر کرنا، کو ہم وزن کرنا، سے زیادہ وزنی ہونا، کی تلافی کرنا۔ ــ بین: میں وزن برابر کرنا۔ ــ بین ــ و: کا سے مقابلہ کرنا، ایک چیز کا دوسری کے مقابلہ میں وزن کرنا۔ ــ بین ــ و بین: میں موازنہ کرنا۔ ــ ہ: کو مساوی طور پر تقسیم کرنا۔ تَوَازَنَ: متوازن ہونا۔ وِزْنَۃ: تولنا، تول۔ وَزْن جمع أوزان: وزن، (شعر کا) وزن، اسم یا فعل کا نمونہ، شکل، جہاز کی ضخامت ٹنوں میں۔ لاوزنَ لہ یا عدیم الوزن: بے وزن، بے حد ہلکا، غیر اہم، ناقابل ذکر، یونہی سا، بہت چھوٹا، برائے نام۔ اقام وزنًا کبیرًا لِ: کو بہت اہمیت دینا۔ مصلحۃُ الوزن و الکیل: ناپ تول کے پیمانوں کا محکمہ۔ وزنُ الدِیک: کم وزن گھونسے باز۔ الوزنُ الفارغ: خالی وزن۔ وَزْنَۃ جمع وَزَنات: وزن، بوجھ، چاندی یا سونے کا سکہ، تقریباً ایک سو کلوگرام کا وزن۔ وزنۃ اضافیۃ: اضافی وزن، اضافی بوجھ۔ وِزانَ (کے) حسب حال، (کے) مناسب، (کا) ہم مقدار، (کے) مماثل، کی مطابقت میں، کے اچھے نمونہ یا عمدہ مثال کی پیروی میں۔ وَزِین: بہت وزن دار، وزنی، بوجھل، بہت بھاری۔ وزین الرأی: قوی رائے والا، مضبوط رائے والا، معاملہ فہم۔ میزان جمع موازین: ترازو، وزن، بوجھ، پیمانہ، شعر کا وزن، قاعدہ، طریقہ، انصاف، غیر جانبداری۔ میزانُ الحرارۃ: حرارت پیما۔ میزانٌ راصد: خود اندراج کرنے والا پیمانہ۔ میزان طبلی: وزن کرنے والی مشین، گاڑی تولنے کی مشین، سامان تولنے کی مشین۔ میزانُ الماء: سطح آب۔ مِیزَانِیۃ: توازن، آمد و خرچ کا توازن، بجٹ۔ میزانیۃ مُلحَقَۃ: ضمنی بجٹ۔ توازن سیاسی: سیاسی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

توازن۔ تـوازنُ القوٰی طاقت کا توازن۔ اعادَ التـوازن بین: کے مابین توازن بحال کرنا۔ وازِن: وزن کرنے والا، پورے وزن کا، پیٔے ہوئے، نشہ میں۔ مَـوزُون: خوب تلا ہوا، وزن کیا ہوا، تولا ہوا، پورے وزن کا، متوازن اچھی طرح غور کیا ہوا، عقل کے تقاضے کے مطابق، ارادی، سوچ سمجھ کر کیا ہوا، ہوشمند، متناسب، صحیح فیصلہ والا، مدبرانہ، معاملہ فہم، بحر میں متوازن۔ متوازن بحر والا۔ مُـوَازِن: وزن میں زیادہ، مقابل میں اپنا وزن رکھنے والا، مساوی، برابر، ہم معنی۔ متـوازن: متوازن، باہمی توازن رکھنے والا۔ مُتـــزِن: متوازن محتاط، جچا تلا، موزوں، باقاعدہ، ہوشمند، ہم آہنگ، مطابق۔

وزی: ا۔ وَزَی یَزِی وَزْیاً الشیءُ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا، سکڑنا۔ ـــ الأمرُ فلاناً: کسی بات کا کسی کو غضبناک کرنا۔ الوَزَی: پستہ قد گٹھا ہوا آدمی۔

۲۔ وَازَی مُـوَازَاةً ہٗ: کے آمنے سامنے ہونا۔ أَوْزَی اِیـراءً ظَهـرَهٗ إلی الحـائِط: دیوار سے پیٹھ لگانا، دیوار سے ٹیک لگانا۔ ـــ إلی فلان: کے پاس پناہ لینا۔ ـــ ہ الیہ: کو کے پاس پناہ لینے پر مجبور کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو اٹھانا، سے ٹیک لگانا۔ ـــ لِدارِہ: گھر کی دیواروں کو مٹی سے لیپنا یا کسی اور چیز سے لیپنا۔ تَـوازَی تَـوازِیاً التَینان: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ مُتـوازِیُ السطـوح: متوازی سطحوں والا Parallelepiped۔

۳۔ اِسْتَـوزَی اِسْتِیـزاءً فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ المُسْتَوزِی (فا): سیدھا کھڑا ہونے والا۔

۴۔ المُسْتَوزِی: خودرائے۔

☆ وَازَی ہ: کے متوازی ہونا، قابل ہونا، سے یکساں فاصلہ پر ہونا، کا جوڑ ہونا، کا مثنی ہونا، کے برابر ہونا، سے یکساں ہونا، کے مطابق ہونا، کو (ایک دوسرے کے) برابر کرنا، کسی چیز جتنا ہونا، کے مساوی ہونا، کے مترادف ہونا۔ مُـوَازَاۃ: یکساں فاصلہ، متوازیت، مساوات، برابری، ہم قدری۔ تـوازٍ: یکساں فاصلہ، متوازیت، مساوات، برابری، ہم قدری۔ عـلـی التوازِی: پہلو بہ پہلو، متوازی، سے یکساں فاصلہ پر۔ مُـوَازٍ: متوازی، برابر کا، ہم پلہ، ہم قیمت، مساوی، مرادف۔ متـوازٍ: متوازی، مطابق، مانند، مشابہ، مثل، ملتا جلتا۔ متوازی الاضلاع: متوازی الاضلاع (paralellogram)۔

وس: وَسْوَسَ وِسْوَاساً و وَسْوَسَةً الشیطانُ لَهٗ و الَیہ: میں وسوسہ ڈالنا۔ ـــ الرجُلُ: عقل کی خرابی سے بے تکی باتیں کرنا، وسوسہ میں مبتلا ہونا۔ صفت: مُوَسْوِس آہستہ بولنا۔ ـــ الحلیُ أو القصبُ: زیور یا نے کا جھنکار پیدا کرنا، آواز نکالنا۔ ـــ الرجُلَ: سے آہستہ بات کرنا۔ وُسْـوِسَ بــہ: کا کلام مختلط ہونا۔ الوَسْـواس جمع وَسَاوِس: وَسْوَسَ کا اسم، وسوسہ، شیطان، وہم کی بیماری، دل میں آنے والی برائی یا بے نفع بات۔

وسب: ا۔ وَسَـبَ یَسِـبُ وَسْباً المکانُ: جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ اَوْسَـبَ اِیسـاباً المکانُ: جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ ـــ الکبشُ: مینڈھے کا بہت اون والا ہونا۔ الوِسْب: گھاس۔ المِیساب: نیم پختہ کھجور۔

۲۔ وَسِـبَ یَوْسَبُ وَسَباً الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔ الوَسَب (مص): میل۔

وسج: وَسَجَ یَسِجُ وَسْجًا و وَسِیجًا و وَسَجَاناً تِ الإبلُ: اونٹوں کا تیز چلنا صفت: واسِجَة۔ أَوْسَـجَ البعیـرَ: اونٹ کو تیز چلانا۔ الـوَسْـج و الـوَسَـجـان و الـوَسِیـج: اونٹوں کی تیز چال۔ الوَسَّاج و الوَسُوج جمع وُسُج من الإبلِ: تیز رفتار اونٹ۔ ابلٌ وَسُوجٌ: تیز رفتار اونٹ۔ (جمع)

وسخ: وَسِـخَ یوسَـخُ و یَـاسَـخُ و یِیْسَخُ وَسَخاً الشـیءُ: پر میل چڑھنا، میلا ہونا صفت: وَسِـخٌ۔ وَسَّـخَ و أَوْسَـخَ الشیءَ: کو میلا کرنا۔ تَـوَسَّخ واتَّسَـخَ واسْتَوْسَخَ: میلا ہونا۔ الوَسَـخ جمع أَوْسَاخ: میل کچیل۔

☆ وَسِـخَ یَوْسَخُ وَسَخًا: میلا، آلودہ، نجس یا غلیظ ہونا یا ہو جانا۔ وَسَّخَ و أَوْسَخَ ہ: کو گندہ کرنا، میلا کرنا، پر دھبہ ڈالنا، دھبا لگانا، داغ لگانا، کو بد رنگ کرنا۔ تَـوَسَّـخَ و إتَّسَـخَ: میلا، آلودہ، نجس یا غلیظ ہونا یا ہو جانا۔ وَسَخ جمع أَوْسَاخ: نجاست، غلاظت، میل کچیل، کیچ کچھ، گندگی۔ وَسِـخ: گندہ، نجس، غلیظ، میلا، دھبا لگا ہوا، ناصاف۔ وَسَاخَة: میلا پن، گندگی، غلاظت، نجاست۔

وسد: ا۔ وَسَّدَہُ الوِسادَةَ: کے سر کے نیچے تکیہ رکھنا۔ ـــ الیـہ الأمر: کسی کام کو کسی کے ذمہ لگانا۔ تَـوَسَّدَ الوِسَادة: تکیہ سر کے نیچے رکھنا۔ ـــ ذراعَهٗ: بازو کو سر کے نیچے تکیہ کی طرح رکھنا اور سونا۔ الـوَسَاد و الوِسَاد و الـوُسـاد جـمع وُسُد: تکیہ، سہارا، آسرا، گدی۔ رجُـلٌ عـریـضُ الـوسـاد: کند ذہن آدمی۔ اِنَّ سـارَكَ لَعَرِیضٌ: بہت سونے سے کنایہ ہے، یعنی تم بہت سوتے ہو۔ الوَسَادَة و الوِسادَة و الوُسَادَة جمع وَسَادَات و وِسَادات و وُسَادات و وَسَائِد: تکیہ۔

۲۔ اَوْسَدَ فیالسیر: تیز چلنا۔

۲۔ اَوْسَدَ الکلبَ بالصید: کتے کو شکار پر اُکسانا۔

☆ وَسَّـدَہ ہ: کے سر کے نیچے (تکیہ) رکھنا، کے سر کو پر رکھنا، لٹانا۔ وَسَّـدَہُ التـراب: کسی شخص یا چیز کو زمین میں لٹانا۔ وَسَّـدَہٗ صَـدرَہٗ: کو لپٹا لینا، سینہ سے لگانا، گلے لگانا۔ تَـوَسَّدَ ہ: اپنا سر (تکیہ) پر رکھنا، (تکیہ) پر ٹیک لگانا۔ لَـزِمَ الـوَسَـادَ: صاحب فرش ہونا۔ مُوَسَّد: آسان، ہموار، فرش بند (سڑک)۔

وسط: وَسَـطَ یَسِـطُ وَسْطًا وَسِطَةً المکانَ او الـقـومَ: جگہ یا لوگوں کے درمیان بیٹھنا صفت: وَاسِـط۔ ـــ وَسَاطَةً القومَ وفیهم: حق و عدل میں اپنی قوم میں متوسط ہونا۔ وَسُـطَ یَسِطُ وَسَاطَةً و سِطَةً فی حَسَبِهٖ: شریف ہونا، حسب والا ہونا۔ وَسَّطَ ہٗ: کو ثالث بنانا، درمیان میں رکھنا۔ ـــ فی حَسَبِہ: شریف ہونا، حسب والا ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو دو ٹکڑے کرنا۔ اَوْسَـطَ اِیساطاً القومَ: قوم کے بیچ میں داخل ہونا۔ تَـوَسَّطَ القومَ او المکانَ: لوگوں یا جگہ کے درمیان بیٹھنا۔ ـــ بینهم: کے مابین ثالث اور صلح کار ہونا۔ ـــ الرجُلُ: درمیانی یا اوسط چیز لینا۔ الـوَاسِـط (فا): دروازہ، پالان کا اگلا حصہ۔ الوَاسِطَة: واسط کا مؤنث: پالان کا اگلا حصہ، ہار کے بیچ کا جوہر جو سب سے عمدہ ہوتا ہے، ذریعہ، سبب (کَـانَ بِـوَاسِـطَةِ کـذا: یہ کے ذریعے ہوا) ثالث (فلانٌ فی واسطة قومِه: فلاں اپنی قوم میں سب سے اچھا آدمی ہے۔) الوَسَط: (مذکر، مونث، واحد اور جمع کے لئے): معتدل۔ (شـیءٌ وَسَطٌ: خراب اور عمدہ کے درمیان کی چیز۔ اس کی جمع اَوساط بھی آتی ہے۔ وَسَـطُ الشـیء: چیز کے دونوں طرفوں کا درمیان۔ جیسے وَسَطُ الحبـل و وَسَـطُ الدار۔ رجُـل وَسَـط: اپنی قوم میں صاحب حسب۔ کہا جاتا ہے: هـو فی وَسَطِ القوم و فی وَسْطِهم: وہ قوم کے درمیان ہے۔ ہر جگہ جس میں وسط کی جگہ ''بین'' رکھنا موزوں ہو۔ وَسْـط و وَسَـط دونوں طرح مستعمل ہے جیسے: وَسْـطَ الـقـوم و وَسَـطَ الـحبـل۔ الوَسَاطَة (مص): ثالثی۔ الوَسُوط: متوسط، درمیانی، بالوں کا خیمہ یا چھوٹا خیمہ۔ وُسُـوطُ الشـمـس: سورج کا بیچ آسمان پر آنا۔ الـوَسِیـط جـمـع وُسَـطـاء مونث وَسِیْطَة: ثالث۔ هو وَسِیـطٌ فیهـم: وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلند مقام اور شریف النسب رکھا ہے۔ الـوسیـط (فـی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

القطوع المَخْرُوطِيَّة): نصف وتر۔ الأوسَط جمع اَوَاسط: متوسط،معتدل۔ اَوْسَطُ الشيء: چیز کے دوطرفوں کے درمیان۔ العِلمُ الأوسَطُ: علم ریاضی۔ اسے حکمت وسطی بھی کہتے ہیں۔ الوسْطَى جمع وُسَط: أوْسط کا مؤنث۔ ـــ من الأصابع بیچ کی انگلی۔ مُوسَطُ البیت: گھر کا درمیانی حصہ۔ المُتَوَسِّط:فا۔ مثلث میں خط مستقیم کا ٹکڑا جو چوٹی اور بالمقابل ضلع کے نصف کو ملاتا ہے۔

وَسَّطَ ہ: کو درمیان میں رکھنا۔ ـــ ہ بین: کو کے درمیان ثالث چننا یا مقرر کرنا۔ تَوَسَّطَ ہ: کے درمیان یا مرکز میں ہونا۔ ـــ لِ ب: کے لئے کی ثالثی کرنا۔ ـــ بین کے درمیان ثالثی کرنا۔ ـــ فی: میں ثالثی یا بچولے کے طور پر کام کرنا۔ تَوَسَّط: درمیان میں کھڑا ہونا، درمیانہ رہنا، دوانتہاؤں میں درمیانی چیز لینا، درمیانی راستہ پر چلنا۔ وَسْط و وَسَط جمع اَوْساط: درمیان، مرکز، قلب، کمر، معاشرتی ماحول، ماحول، گرد و پیش، گرد و نواح، دائرہ، حلقہ، ذریعہ، آلہ، سبب، عامل (جمع عوامل) اوسط درجے کا ہونا، اوسط خوبی، اوسط، عام معیار جمع: حلقے، طبقے، طبقات۔ وَسَط جمع اَوْساط: وسطی، وسطانی، درمیانہ، مرکزی، درمیان میں، سڑک کا درمیان، بیچ، معتدل، دوانتہاؤں میں درمیانی، اوسط، اوسط درجے کا۔ وَسَطَ: کے درمیان، قلب یا مرکز میں، کے درمیان۔ فی وَسْطِ مِن: کے درمیان، کے اندر۔ فی الوَسَط: بالکل مرکز میں، درمیانی کوالٹی کا۔ فی وَسَطنا: ہمارے درمیان۔ وسط الصیف: عین موسم گرما، موسم گرما کا شباب، سخت گرمی کے ایام۔ حجمٌ وَسَط: درمیانی سائز۔ حل وسط: درمیانی حل، درمیانہ راستہ، بین بین کا فیصلہ۔ السِّیرةُ الوسط: درمیانی چال، درمیانی رفتار، معتدل اور غیر جانبدارانہ رویہ۔ الأوساط الدبلوماسیة: سفارتی حلقے۔ الأوساط العامة: عوام۔ اوساطُ الناس: درمیانہ طبقے۔ وَسْطِی و وَسْطِی: ماحول یا معاشرتی ماحول کا یا کے متعلق۔ وَسْطانِی: درمیانی، مرکزی، وسطی، اوسط، اوسط درجے کا۔ وَسْطِیَّة جمع وَسْطِیات: آنگن، انگنائی، اندرونی صحن۔ وَساطَة: ثالثی، مداخلت، مدد، سفارش، شفاعت، بیچ میں پڑنا۔ بِوَساطةِ: کے ذریعے۔ علی وساطة فلان: کی مدد سے۔ قَدَّمَ وساطته لِ: کے لئے اپنی مدد پیش کرنا۔ وَسِیط جمع وُسَطاء: درمیانی، ثالث، وسطی، وسطانی، مصالحت کی کوشش کرنے والا، سفارش کرنے والا، شفاعت کنندہ، بچولا، تاجر، دوکاندار، دلال، ایجنٹ۔ العصر الوسیط: قرون وسطی۔ وَسِیطة جمع وَسَائط: ذریعہ۔ وسائط المواصلات والنقل: ذرائع مواصلات و نقل و حمل۔ اَوْسَط جمع اَوَاسِط م وُسْطی جمع وُسَط: درمیانہ، مرکزی۔ الوُسْطی: درمیانی انگلی۔ فی اَوَاسِطِ هذا الأسبوع: اس ہفتہ کے وسط میں۔ اَوَاسِطُ الشهر: مہینہ کا درمیان۔ اواسط افریقیة: وسطی افریقہ۔ اوروبا الوُسْطَی: وسطی یورپ۔ الشرق الأوسط: مشرق وسطی۔ الطبقات الوُسْطَی: متوسط طبقے۔ القرون (یا العصورُ) الوُسْطَی: قرون وسطی۔ نتیجة وُسْطَی: درمیانہ نتیجہ، اوسط۔ تَوَسُّط: ثالثی، مصالحت کی کوشش، مداخلت، وسط یا درمیان صورت حال یا وضع اوسط درجے کا ہونا۔ واسطة جمع وَسَائط: ثالث، ایجنسی، ذریعہ، مصلحت، چارۂ کار۔ بِواسِطةِ: کے ذریعے۔ بالواسطة: بالواسطہ، بوساطت۔ بهذه الواسطة: اس ذریعہ سے۔ بواسطة ذلك: اس ذریعے سے۔ واسطة الاتصال: کڑی، رابطہ۔ مُتَوَسِّط: درمیانی، درمیانی چیز، درمیانی آدمی، درمیانی منزل، وسطی، بیچ کا، اوسط درجے کا، درمیانی حیثیت کا، متوسط، مرکز میں واقع، مرکزی، ثالث، بچولا، اوسط۔ متوسطُ الحال: اوسط ذرائع والے۔ متوسطُ الحجم: درمیانے سائز کا، درمیانے حجم کا۔ متوسط العمر: درمیانی عمر کا۔ متوسطُ القامة: درمیانے قد کا۔ متوسط النوع: درمیانی کوالٹی کا۔ البحر الابیض المتوسط: بحیرہ روم۔ موجاتٌ مُتَوَسِّطَة: درمیانے درجے کی لہریں۔ متوسط الهجوم: سنٹر فارورڈ center forward۔

وسع: وَسَعَ یَوْسَعُ وَسْعًا اللّٰه علیهم رزقَهُ: لوگوں کو اللہ تعالٰی کا رزق کو بکثرت دینا اور اس میں فراخی دینا۔ وَسَعَ علیه: کو مالدار بنانا۔ وَسِعَ یَسَعُ و یَسِعُ سَعَةً و سِعَةً المکانُ: جگہ کا کشادہ اور فراخ ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو وسیع کرنا۔ (هذا الاناء یسع عشرین کیلاً: اس برتن میں بیس کیل سماتے ہیں۔ وسعت رحمة اللّٰه کُلَّ شیء و لکُلِّ شیءٍ و علی کُلِّ شیء: اللہ تعالٰی کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ اَللّٰهُمَّ سَعْ علینا: اے خدا اپنی رحمت کو ہم پر وسیع کر۔ ما اَسَعُ هذا: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ لا یَسَعُكَ أن تفعل هذا: تمہارے لئے یہ کرنا جائز نہیں یا تم یہ نہیں کر سکتے۔ وسع القومَ فضلُهُ: اس کا فضل و کرم لوگوں پر عام ہوا۔ وسع المالُ الدینَ: مال اتنا زیادہ ہوا کہ اس نے تمام قرض چکا دیا)۔ وَسُعَ یَوْسُعُ سَعَةً و وَسَاعَةً المکانُ: جگہ کا کشادہ و فراخ ہونا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا کشادہ قدم ہونا۔ وَسَّعَ: کشادہ کرنا۔ اَوْسَعَ: بہت مال دار ہونا، کشادہ کرنا۔ ـــ الموضعَ: جگہ کو کشادہ پانا۔ ـــ ہُ الشیءَ: سے کسی چیز کو کشادہ کرانا۔ ـــ النفقةَ: بہت خرچ کرنا۔ ـــ اللّٰه علیه: اللہ تعالٰی کا کسی کو مالدار کرنا۔ تَوَسَّعَ: کشادہ ہونا۔ ـــ القومُ فی المکان: لوگوں کا جگہ میں کشادگی کرنا۔ ـــ الرجُلُ فی النفقةِ: بہت خرچ کرنا۔ اِتَّسَعَ: کشادہ ہونا۔ ـــ النهارُ و غیرُهُ: دن وغیرہ کا دراز و لمبا ہونا۔ ـــ الرجُلُ: مالدار ہونا۔ اِسْتَوْسَعَ: کشادہ ہونا۔ ـــ الشیءَ: چیز کو فراخ پانا یا فراخ چاہنا۔ الواسِع (فا): کشادہ، فراخ۔ ـــ فی الاسماء الحُسنی: اللہ تعالٰی کے اسماء حسنی میں بہت دینے والا سوال پورا کرنے کیلئے کافی اور ہر چیز پر محیط کے معنی میں ہے۔ السَّعَة: اقبال مندی، تونگری، آسودگی، طاقت، قدرت۔ ـــ والوُسْعَة والتوسِعَة: وسعت۔ الوَسْع والوِسْع والوُسْع: طاقت۔ کہا جاتا ہے: لیس فی وسْعِهِ أن یفعل کذا: وہ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ الوَسَاعُ من الخیل: عمدہ و کشادہ قدم گھوڑا۔ الوَسِیع: کشادہ۔ ـــ من الخیل: کشادہ قدم گھوڑا۔

وَسُعَ یَوْسُعُ وَسَاعَةً: فراخ ہونا، کشادہ ہونا، وسیع ہونا، گنجائش والا ہونا، دور تک پھیلا ہوا ہونا، بہت بڑا ہونا، لق و دق ہونا، لمبا چوڑا ہونا، بڑے رقبہ کا ہونا۔ وَسِعَ یَسَعُ سَعَةً: فراخ ہونا، کشادہ ہونا، وسیع ہونا، گنجائش والا ہونا، دور تک پھیلا ہوا ہونا، آسودہ ہونا، خوشحال ہونا۔ ـــ ہ/ ہ: کو جگہ دینا، کے لئے نشستیں رکھنا، کو بٹھانا، کے لئے جگہ رکھنا، کے لئے گنجائش رکھنا۔ ـــ ہ: پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا، کو شامل کرنا، داخل کرنا، کے گرد حلقہ ڈالنا۔ ـــ ہ/ہ: کے لئے کافی بڑا ہونا، کے لئے کافی ہونا۔ وَسِعَ یَسَعُ وُسْعًا و سَعَةً ہ: (خصوصا نفی کے ساتھ) کے لئے ممکن ہونا، کے لئے جائز ہونا، کی طاقت میں ہونا۔ ـــ ہ: کو کرنے کے قابل ہونا، کو کرنے کی اجازت دیا جانا۔ لا یسعنی أن اقول: میں نہیں کہہ سکتا۔ ما أسعُ ذلك: میں وہ نہیں کر سکتا۔ وَسَّعَ ہ: کو مزید کشادہ کرنا، کو زیادہ گنجائش والا کرنا، کو زیادہ کھلا کرنا،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

زیادہ وسیع کرنا، کو پھیلانا، کو لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا۔ — ہ/من کو چوڑا کرنا، بڑا کرنا۔ — ھکو چوڑا کرنا، فراخ کرنا، وسیع کرنا۔ — علی کی جانب سخی ہونا، فیاض ہونا، دریادل ہونا۔ — ہ ھکی طرف کے ساتھ سخی، فیاض یا دریادل ہونا۔ — علی کو امیر کرنا، کو مالا مال کرنا۔ وَسَّعَ خُطَاهُ: لمبے ڈگ بھرنا، اپنے قدم تیز کرنا۔ وَسَّعَ المکانَ لِ: کے لئے جگہ بنانا۔ اَوْسَعَ بمعنی وَسَّعَ نیز اَوْسَعَ امیر ہونا یا ہوجانا۔ اَوْسَعَهُ بِرًّا: کے ساتھ انتہائی تعظیم سے پیش آنا، پر بہت مہربانی کرنا۔ اَوْسَعَهُ شَتْمًا: پر گالیوں کی بوچھاڑ کرنا۔ اَوْسَعَهُ ضربًا: کی خوب پٹائی کرنا، کو کوڑے مارنا، چابک لگانا۔ اَوْسَعَ النفقةَ: بہت خرچ کرنا۔ تَوَسَّعَ وسیع ہونا، فراخ ہونا، کشادہ ہونا، پھیلنا، کافی جگہ رکھنا، آرام سے بیٹھنا۔ — فی میں اپنے آپ کو آرام دہ، سکھی یا مطمئن کرنا، بے تکلفی سے بیٹھنا، پر تفصیل سے روشنی ڈالنا، پر مفصل کہنا یا لکھنا، کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا یا لکھنا، کو جاری رکھنا، میں رہنا۔ تَوَسَّعَ فی النفقة بہت خرچ کرنا۔ اِتَّسَعَ وسیع ہونا، فراخ ہونا، کشادہ ہونا، بڑا ہونا، پھیلنا، چوڑا ہونا، بڑھنا، زیادہ ہونا، دور تک پھیلنا، وسیع ہونا، بہت بڑا ہونا، کے مابین ہونا، امیر ہو جانا، بہت بڑا (ہونا)۔ — لِ: کے لئے کافی ہونا، کو جگہ دینا، کے لئے جگہ رکھنا، کے ہاتھ میں ہ کے سپرد یا کی تحویل میں ہونا، کے قابل ہونا۔ — ھکو کرنے کے قابل ہونا، کو کرنے کا اہل ہونا، کے کرنے جوگا ہونا، کو کر گزرنے والا ہونا۔ بِکُلِّ مَا تتسع له الکلمةُ من معنی: لفظ کے وسیع ترین مفہوم میں۔ اِسْتَوْسَعَ: وسیع ہونا، فراخ ہونا، کشادہ ہونا، زیادہ چوڑا ہو جانا، زیادہ بڑھ ہو جانا، حجم میں بڑھنا۔ - ھکو فراخ، کشادہ یا بڑا پانا۔ سَعَة: کشادگی، فراخی، کافی جگہ یا گنجائش رکھنا، لمبائی، طول، رقبہ، درجہ، حد، دائرہ، میدان، وسعت، رسائی، پہنچ، حجم، گنجائش، ظرف، سمائی، رکھنے کی گنجائش، قابلیت، لیاقت، اہلیت، طاقت، صلاحیت، قدرت، آرام، آسودگی، افراط، بہتات، کثرت، وفور، دولت اور مال کی کثرت، فضول خرچی، عیش و عشرت، ناز و نعمت، تعیش، دولت مندی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، مال و دولت فراوانی۔ ذو سَعَةٍ: خوش حال، مالدار، دولتمند، امیر۔ بسعةٍ یا عن سعةٍ: کثرت سے، افراط سے، بہتات سے۔ علی الرُّحب و السعةِ: خوش آمدید۔ علی قدر سعتی: اپنی بہترین صلاحیتوں سے۔

کان فی سَعَةٍ مِن رزقِه: دولت مند ہونا، عیش و عشرت میں زندگی گزارنا۔ سَعَةُ الصَّدْرِ: صبر، صبر سے برداشت کرنے والا (رویہ وغیرہ)۔ سعة کَهْربائِيّة: برقی وسعت۔ سَعَةُ الموجة: لہر کی فراوانی۔ وُسْع: قابلیت، لیاقت، اہلیت، صلاحیت، استعداد، گنجائش، وسعت، ظرف، سمائی، طاقت، قوت، رکھنے کی گنجائش۔ فی وُسْعِه ان: یہ اس کی استطاعت میں ہے کہ......وہ......کرسکتا ہے۔ فی وُسْعِی أن اقول: میں کہہ سکتا ہوں۔ لیس فی وُسْعِهِ إلّا: اس کے پاس کوئی اور امکان نہیں، لیکن وہ نہیں کرسکتا مگر...... بَذَلَ وُسْعَه: حتی المقدور کوشش کرنا، اپنی پوری کوشش کرنا، (میں) کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ وَسَع: فراخی، کشادگی، پھیلاؤ، وسیع فضا یا جگہ۔ وُسْعَة: کشادگی، وسعت، گنجائش، فراخی، حد درجہ، احاطہ، گھیرا، پہنچ، رسائی، افراط، فراوانی، بہتات، کثرت۔ وَسِیع جمع وِسَاع: فراخ، کشادہ، وسیع، کھلا ہوا، بڑا، گنجائش والا، لمبا، چوڑا، چوڑا چکلا۔ اَوْسَع: زیادہ وسیع، زیادہ کشادہ، زیادہ بڑا، زیادہ گنجائش والا۔ اَوْسَعُ صدرًا: زیادہ صابر۔ أَوْسَعُ مَدًى: زیادہ چوڑا، فراخ، یا کشادہ۔ تَوسِیع: فراخ کرنا، کشادہ کرنا، چوڑا کرنا، فراخی، وسعت، کشادگی، پھیلاؤ، لمبائی، چوڑائی، ایزادی، زائد حصہ، توسیع، کلام کی طوالت، طول کلامی، اضافہ، بیشی، بڑا ہو جانا، ترقی۔ اَجَلُ التوسِعة: عارضی مہلت، سزا میں مہلت۔ تَوَسُّع: پھیلاؤ، وسیع ہونا، اضافہ کرنا، توسیع، وسعت، چوڑا یا وسیع کرنا یا ہونا، بڑھنا یا بڑھانا، اضافہ، ترقی۔ مَعَ التوسع: وسیع تر مفہوم میں، وسعت سے۔ توسعٌ استعماریٌّ: سامراجی توسیع۔ توسعُ الحرب: جنگ کا پھیلاؤ۔ سِیاسَةُ التوسع: توسیع کی پالیسی۔ تَوَسُّعِی: توسیع کا حامی (ملک یا تجارت کی)۔ سیاسة توسعیة: توسیع کی پالیسی، توسیع پسندانہ پالیسی۔ اِتِّسَاعٌ فی الکلام: اظہار کا ابہام۔ عدم الاتساع لِ: کی کمی، کی کسر، کے لئے ناکافی ہونا۔ واسِع الانتشار: دور تک پھیلا ہوا، عام۔ واسِع الصدر: صابر، برداشت کرنے والا، سخی، بہت مہربان، شفیق، مشفق، فراخ دل۔ واسِعُ النطاق: دوررس، وسیع، قابل فہم، وسیع پیمانہ کا۔ رَجُلٌ واسعُ الحِیلة: باتدبیر طباع آدمی۔ شارِع واسِع: چوڑی سڑک، کشادہ سڑک۔ مَوْسُوعة جمع مَوْسُوعَات: قابل شمول تصنیف، انسائیکلو پیڈیا (encyclopedia)، لغات قاموس، مخزن (معلومات)۔ مَوْسُوعی: انسائیکلو پیڈیا کا یا سے متعلق۔ مُوسِع: امیر، دولت مند۔ مُتَّسِع: وسیع، کشادہ، فراخ، بڑا، گنجائش والا، بہت، بافراط، بکثرت، کافی۔ مُتَّسَع: جگہ گنجائش۔ لم یجد مُتَّسَعًا من الوقت لِ/ لم یکن فی الوقت متسعٌ لِ: کے لئے کافی وقت نہ رکھنا یا کافی وقت نہ ہونا۔ مُتَّسَعٌ حَیَوِیٌّ: زندہ رہنے کے لئے جگہ۔

وسف: وَسَّفَ تَوْسِیفًا الشیءَ: کو چھیلنا۔ تَوَسَّفَ الشیءُ: چھلنا۔ — البعیرُ: اونٹ کا موٹا ہونا اور اس کے پہلے بال گر کر نئے بال اُگنا۔ — ت اَوْبَارُ الإبلِ: اونٹوں کے بال جھڑ جانا۔

وسق: ا۔ وَسَقَ یَسِقُ وَسْقًا الشیءَ: کو اٹھانا، جمع کرنا۔ — البعیرَ: اونٹ پر بوجھ لادنا۔ — ت الناقةُ وغیرُها: اونٹنی وغیرہ کا حاملہ ہونا۔ صفت: وَاسِق جمع وَاسِقات و وِساق نیز مُوَاسِق و مَوَاسِیق (قیاس کے خلاف)۔ — العینُ الماءَ: آنکھ کا تر ہونا۔ کہا جاتا ہے: لا افعل ذلك ما وسقت عینی الماءَ: جب تک میری آنکھیں تر ہیں میں اس کو نہیں کروں گا یعنی کچھ نہیں کروں گا۔ — ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا پھلدار ہونا، بحری فوج کے لوگ کہتے ہیں: وَسَقَ السفینةَ: اس نے جہاز پر بوجھ لاد دیا۔ — وَسِیقًا البعیرَ: اونٹ کو ہانکنا۔ وَسَّقَ الحنطةَ: گندم کو کھپوں میں تقسیم کرنا۔ وَاسَقَ مُوَاسَقَةً ہ: کا مقابلہ کرنا، کے برابر ہونا۔ اَوْسَقَ اِیْسَاقًا الدابَّةَ: جانور پر بوجھ لادنا۔ — ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا بہت پھل دار ہونا۔ اِتَّسَقَ الأمرُ: کام کا ترتیب میں ہونا۔ — ت الإبلُ: اونٹوں کا جمع ہونا۔ — القمرُ: چاند کا پورا ہونا۔ اِسْتَوْسَقَ اِسْتِیسَاقًا: اکٹھا ہونا۔ — الأمرُ: کام کا ترتیب میں ہونا۔ — لهُ الأمرُ: کے لئے کام کا ممکن ہونا۔ الوَسْق (مص) جمع اَوْساق: سات صاع، اونٹ کا بوجھ۔ — جمع أَوْسَاق و وُسُوق: کھجور کے درخت کا بوجھ۔ الوَسِیق (مص): دھتکار، بارش۔ الوَسِیقَة: حاملہ۔ ناقة وسیقة: حاملہ اونٹنی۔ — من الإبل جمع وَسَائِق: اونٹوں کا ریوڑ۔ المُتَّسِق: چاند کا ایک نام۔ — عند اهل العروض: اوزان شعر میں ایک وزن جس کا نام متدارک بھی ہے، جو آٹھ بار فَعِلُنْ پر مشتمل ہے۔

۲۔ المِیساق جمع مَیَاسِیق و مَآسِیق من الحمام: بڑے بازوؤں والا کبوتر، وہ پرندہ جو اڑنے میں پر پھڑ پھڑائے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ﻉ وَسَقَ يَسِقُ وَسْقًا ہ ہ: جہاز یا کشتی پر کوئی چیز لادنا۔ اَوْسَقَ: بمعنی وَسَقَ۔ اِتَّسَقَ: ترتیب میں ہونا، اچھی ترتیب میں ہونا — مع: سے ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا، کے موافق ہونا۔ اِسْتَوْسَقَ لِ: کے لئے ممکن ہونا یا ہو جانا۔ وَسْق جمع وُسُوق و اَوْساق: بوجھ، لے جایا جانے والا مال، جہاز کی کھیپ، بار جہاز۔ اِتِّساق: ہم آہنگی، مطابقت میل۔ مُتَّسِق: اچھی طرح مرتب، متوازن، ہم آہنگ، مطابق۔ وِسْكي: وسکی (شراب)۔

وسل: وَسَلَ يَسِلُ وَسِيلَةً و وَسَّلَ و تَوَسَّلَ إلى اللّٰه بعملٍ او وَسِيلة: کسی کام یا وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا۔ صفت: واسل۔ الواسلة والوَسِيلَة جمع وَسِيل و وَسائل و وُسُل: تقرب کا ذریعہ، بادشاہوں کے ہاں مرتبہ، درجہ۔

ﻉ تَوَسَّلَ إلى: کے دل میں گھر کرنا، کا منظور نظر بن جانا، کے نزدیک عزیز یا مقبول ہونا، مورد عنایات ہونا، تک رسائی چاہنا، کی مہربانی کا خواہاں ہونا، کی منت سماجت کرنا، سے التماس کرنا، التجا کرنا۔ — ب: کی مدد مانگنا، سے درخواست کرنا، کو بطور ذریعہ استعمال کرنا، (ذریعہ) استعمال کرنا۔ وَسِيلَة جمع وَسائِل: ذریعہ، تدبیر، ترکیب، مصلحت، چارہ کار، آلہ، آلہ کار، سبب، عامل (جمع عوامل)، اقدام، قدم۔ وَسائِلُ الاحتياط: احتیاطی تدابیر، پیش بندیاں۔ وسائل التعليم: تعلیمی اعانتیں، ترتیبی اعانتیں، سامانِ تعلیم۔ وسائلُ التكييف: ایئر کنڈیشنگ کی تنصیبات۔ وسائل المواصلات: ذرائع مواصلات۔ وسائل النقل: ذرائع نقل و حمل۔ اِبْتَغى الوسِيلة إلى ب: کے دل میں کے ذریعے گھر کرنا، کے نزدیک کے ذریعے مورد عنایات ہونا۔ اِتَّخَذَ منه وسيلةً لِ: کو کے لئے چارہ کار سمجھنا۔ تَوَسُّل: درخواست التماس، التجا، پُر ولولہ اپیل۔ تَوَسُّلاً إلى: میں اس ذریعہ سے کامیاب ہونے کے لئے۔

وسم: وَسَمَ يَسِمُ وَسْمًا و سِمَةً ہ: پر پکا نشان لگانا، کو داغی کرنا، پر داغ لگانا، پر شناخت کا نشان لگانا — الوسمي ...: موسم بہار کی پہلی بارش کا زمین پر پڑنا۔ وَسُمَ يَوْسُمُ وَسامًا و وَسامَةً الغلام: لڑکے کا خوبصورت چہرے والا ہونا — الوجهُ: چہرہ کا خوبصورت ہونا۔ وَسَّمَ: موسم حج میں مکہ میں حاضر ہونا۔ واسَمَ فلانًا فَوَسَمَهُ: سے خوبصورتی میں غالب ہونا۔ تَوَسَّمَ الرجلُ: موسم بہار کی گھاس تلاش کرنا — الشيءَ: کو غور سے دیکھنا، کی علامت طلب کرنا، کو پہچاننا۔ — فيه الخيرَ: میں بھلائی کا اثر دیکھنا، میں ہونہاری کی علامتیں دیکھنا، سے بہت سی نیکی کی توقع کرنا، سے بہت امیدیں وابستہ کرنا۔ —— بالوَسِمَةِ: وسمہ لگانا۔ اِتَّسَمَ: نشان دار ہونا، ممتاز ہونا۔ السِمَة (مص) جمع سِمات: علامت، داغ کا اثر۔ الوَسْم (مص) جمع وُسُوم (ن): سبز پتوں والا درخت، علامت، داغ کا اثر۔ الوَسْمة والوَسِمَة: نیل کے پتے یا ایسا پودہ جس کے پتوں سے رنگ کیا جاتا ہے۔ الوَسْمِي: موسم بہار کی پہلی بارش۔ الوِسام جمع اَوْسِمَة: جانوروں پر لگایا ہوا نشان، تمغہ۔ الوَسامَة (مص): حسن کا اثر، حسن و جمال۔ الوَسِيم جمع وُسَماء و وِسام مونث وَسِيمَة جمع وَسِيمات و وِسام: خوبصورت چہرے والا۔ الأَوْسَم: زیادہ خوبصورت۔ المَوْسِم جمع مَواسِم: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، مکہ معظمہ میں حاجیوں کے جمع ہونے کا وقت، مکہ میں حاجیوں کا میلا، بڑی عیدیں۔ — عند اهل لبنان: ریشم کے کام کا زمانہ۔ — عند العامة: ایسا مرض جو زندگی میں ایک بار لگتا ہے جیسے چیچک۔ المِيْسَم جمع مَياسِم: داغ لگانے کا آلہ، حسن و جمال۔ المَواسِم: داغ دیئے ہوئے اونٹ۔

ﻉ وَسَمَ يَسِمُ وَسْمًا و سِمَةً: جانور پر نشان لگانا، داغ لگانا، پکا نشان لگانا۔ وَسَمَهُ بالعار: پر بدنامی کا داغ لگانا، کو بدنام کرنا۔ وُسِمَ جبينُهُ ب: کے چہرہ پر کچھ لکھا ہونا۔ وَسَّمَ ہ: کو ممتاز کرنا، کو اعزاز عطا کرنا، کو تمغہ دینا، رتبہ دینا۔ تَوَسَّمَ ہ: کی جانچ پڑتال کرنا، کو توجہ سے دیکھنا، بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ — ب: پر کا نشان لگنا، کا خاصہ ہونا، کا وصف یا نشان ہونا۔ تَوَسَّمَ فيه خيرًا: میں ہونہاری کی علامتیں دیکھنا، سے بہت سی خوبیوں اور بھلائیوں کی توقع کرنا، سے بہت سی امیدیں یا توقعات وابستہ کرنا۔ اِتَّسَمَ: پر نشان یا داغ لگنا۔ — ب: سے متصف ہونا، کی چھاپ رکھنا۔ سِمَة جمع سِمات: نشان، خصوصیت، وصف، خارجی خصوصیت، چہرہ، چہرہ مہرہ، شکل و صورت، چھاپ، امتیازی وصف، طرہ امتیاز، نقش، ٹھپا، طبع، اثر، تاثر، امتیازی خصوصیت، فطرت، ویزا (visa) جمع سِمات: چہرے کا اتار چڑھاؤ، وضع قطع، چال ڈھال، رویہ، طریقہ، معنی، مطلب، مفہوم۔ وَسْم جمع وُسُوم: داغ، چھاپ، مارکہ، قسم، قبائلی نشان، قبائلی چھاپ، خصوصیت، نشان، [illegible] وِسام جمع اَوْسِمَة: بیج، بلا (badge)، تمغہ، میڈل (medal)، رتبہ، اعزازی بلا یا نشان۔ وِسامُ الاستحقاق: حق یا استحقاق کا رتبہ۔ وِسامُ رَبْطَةِ الساق: اعلیٰ درجہ کا اعزازی نشان۔ وِسامُ الشرف (جَوْقَةُ الشرف): نشانِ اعزاز (فوجی)۔ وَسامَة: حسن، جمال، خوبصورتی، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دل بری، دل آویزی۔ وَسِيم جمع وُسَماء و وِسام: حسین، خوبصورت، خوش انداز، دلکش، خوش مزاج، خوبصورت چہرہ)۔ مَوْسِم جمع مَواسِم: موسم، مسرت کا موسم، حج کا تہوار، جشن کا دن، چھٹی، تعطیل، میلہ، مقررہ تاریخ، آخری مدت، کٹائی، فصل۔ المَواسِم والأعياد: جشن اور چھٹیوں کے دن۔ موسم الاصطياف: موسم گرما میں تفریح کا موسم۔ موسمٌ تَمثيليٌّ یا موسم مسرحيٌّ: تھیٹروں کا موسم۔ موسمُ الحج: حج کا موسم۔ موسم القطن: کپاس کی کٹائی، کپاس کا موسم۔ الريح الموسمية: مون سون، موسمی ہوائیں (monsoon)۔ مِيْسَم جمع مَواسِم و مَياسِم: داغ لگانے کا لوہا، داغنے کا لوہا، داغ، چھاپ، دامن پر داغ۔ مَوْسُوم: داغا ہوا، بدنام کیا ہوا۔ — ب: سے متصف، کی خصوصیت والا۔

وسن: اَوْسَنَ يَوْسُنُ وَسْنًا و سِنَةً: اونگھنا۔ صفت: وَسِن و وَسْنان و مِيسان مونث: وَسِنَة و وَسْنَى و مِيسان: بیدار ہونا، جاگنا — فلانٌ: کنویں کی بدبو سے بیہوش ہونا۔ اَوْسَنَتْهُ البئرُ: کو کنویں کا بیہوش کر دینا۔ تَوَسَّنَهُ: کے پاس نیند کے وقت آنا۔ اِسْتَوْسَنَ: وَسِنَ کے معنی میں۔ السِنَة (مص): اونگھ، غنودگی۔ هو في سِنَةٍ: وہ غفلت میں ہے۔ الوَسَن (مص): اونگھ، غنودگی۔ الوَسْنَة: نیند کی کمی، اونگھ۔ الوَسْنَى: بہت اونگھنے والا۔ المَوْسُون مونث مَوْسُونَة: سست، کاہل۔

۲۔ الوَسَن جمع اَوْسان: حاجت۔

ﻉ وَسِنَ يَوْسَنُ وَسَنًا و سِنَةً: سونا، محو خواب ہونا۔ وَسَنٌ: نیند، خواب، اونگھ، جھپکی۔ سِنَة: نیند، خواب، اونگھ، جھپکی۔ سِنَة مِن النوم: ہلکی سی نیند، جھپکی، ذرا آنکھ لگنا۔ وَسِن: نیم خوابیدہ، اونگھتا ہوا۔ وَسْنان مونث وَسْنَى: نیم خوابیدہ، اونگھتا ہوا۔

وسي: وَسَى يَسِي وَسْيًا رأسَهُ: کا سر مونڈنا۔ اَوْسَى إيساءً الرأسَ: سر مونڈھنا — الشيءَ: چیز کو کاٹنا۔ المُوسَى جمع مَواسٍ: استرہ۔ واسَى مُواسَاةً الرجلَ: آدمی کی مدد کرنا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وش: وَشْوَشَ وَشْوَشَةً فُلاناً: سے سرگوشی میں کہنا، کانا پھوسی کرنا۔ ــ ہُ الشیءَ: کوکوئی چیز ہلکے سے پکڑانا۔ تَوَشْوَشَ القومُ: ایک دوسرے سے سرگوشی میں بات کرنا۔ الوَشْوَشُ والوَشْواشُ: ہلکا، تیز رفتار، جلد باز۔ رَجُلٌ وَشْوَشِيُّ الذراعِ: کام میں پھرتیلا مرد۔

ⓒ وَشْوَشَة: سرگوشی، کانا پھوسی۔

وشب الوَشْبُ: موٹی کھجور وغیرہ۔ الوَشْبُ اوشاب کا واحد: بے ترتیب لوگ، اوباش لوگ۔

وشج: وَشَجَ يَشِجُ وَشْجاً تِ الأغصانُ. شاخوں کا ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہونا۔ (کہا جاتا ہے: وَشَجَتْ بكَ قرابتُهُ: اس کی قرابت تم سے مل گئی۔ وَشَجَتْ فِي قلبِهِ أُمُورٌ و هُمُومٌ: اس کے دل میں معاملات اور تفکرات گڈمڈ ہو گئے۔) ــ وَشَّجَ مَحْمِلَهُ: ڈولی کو تسمہ وغیرہ سے باندھنا تا کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے۔ ــ اللہُ قرابتَهُ بِكُمْ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی قرابت تم سے جوڑ دینا۔ ــ اللہُ بين القومِ: اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو آپس میں جوڑ دینا۔ تَوَشَّجَ وتَواشَجَتْ عروقُ الشجرةِ و نحوها: درخت وغیرہ کی جڑوں کا آپس میں الجھا ہوا ہونا۔ الواشِجُ (فا) مونث واشجة: پیچیدہ۔ الواشِجة: باہم پیوستہ رشتہ داری۔ الوَشِيجُ: باہم پیوستہ رشتہ داری، رشتہ داری کی باہم پیوستگی، تیر بنانے کا درخت، نیزے۔ کہا جاتا ہے: تطاعنوا بالوشیج: انہوں نے ایک دوسرے پر نیزوں سے حملہ کیا۔ الوَشِيجَة جمع وَشائِجُ درخت کے ریشہ کی بنی ہوئی رسی جس کو دو لکڑیوں میں الجھا کر اس سے گیہوں وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجائی جاتی ہے۔ وشائج کا واحد: کان کی رگ۔ کہا جاتا ہے: هُمْ وَشِيجَةُ القومِ: وہ قوم میں اجنبی ہیں۔

ⓒ وَشِيجُ الاتصالِ: قریب قریب جڑا ہوا، مربوط۔ وَشِيجَة جمع وشائج: قریبی رشتہ۔ مُتَواشِجٌ: مربوط، باہم مربوط۔

وشح: وَشَّحَ هُ: کو جڑاؤ پیٹی پہنانا۔ تَوَشَّحَ بسيفه: تلوار کو گردن میں لٹکانا۔ ــ بثوبه: کپڑا پہننا یا بغل سے نکال کر کندھے پر ڈالنا۔ ــ الجبلَ: پہاڑ پر چلنا۔ ــ واتَّشَحَ: مرصع پٹکا پہننا۔ الوِشاحُ: تلوار، کمان۔ ذو الوِشاحِ حضرت عمر بن الخطاب کی تلوار۔ ــ والوُشاحُ جمع وُشُحٌ و أَوْشِحَة و وَشائِحُ: جڑاؤ پیٹی۔ الوشاحة: تلوار۔ الوَشْحاءُ: سفید دھاریوں والی کالی بکری۔ ــ سَحَ اشعار کی ایک قسم جس میں ایک قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ اہل اندلس کی ایجاد ہے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اس سے مُوَشَّحَة جمع مُوَشَّحات ہے۔ المُوَشَّحة من الطيرِ او الظباءِ: پرندہ یا ہرن جس کی گردن پر مالا کی طرح دو خطوط ہوں۔

ⓒ وَشَّحَ ہُ: کو وشاح سے سجانا یا وشاح پہنانا۔ تَوَشَّحَ و اتَّشَحَ ب: پیٹی پہننا، پٹکا یا کمر بند پہننا، اپنا (ایک نیا نام) رکھنا، کے نام سے مشہور ہونا۔ مُتَّشِحٌ ب: (کوئی لباس) پہنے ہوئے۔

وشر: وَشَرَ يَشِرُ وَشْراً سنانَهُ: دانتوں کو تیز اور باریک کرنا۔ ــ الخشبةَ بالمنشارِ: لکڑی کو آرے سے چیرنا۔ اِتَّشَرَ و اسْتَوْشَرَ: دانت تیز اور باریک کرنے کو کہنا۔ المَوْشُورُ (مفع) جمع مَواشِيرُ (ہ): تین ضلعوں والا بلوری جسم۔ المِنْشارُ: آرا۔

ⓒ مَوْشُور جمع مَواشِير: منشور (prism)۔ مَوْشُوري: منشوری (prismatic (al))۔

وشز: وَشِزَ يَشِزُ وَشْزاً: جلدی کرنا۔ تَوَشَّزَ للشرِّ: برائی کے لئے تیار ہونا۔ الوَشْزُ والوَشَزُ جمع أَوْشازٌ: جلدی، بلند جگہ، جس کی پناہ لی جائے؛ زندگی کی سختی۔ الوَشِيزَةُ: الوشائز کا واحد: بہت بھرا ہوا تکیہ۔

وشظ: وَشَظَ يَشِظُ وَشْظاً العظمَ: ہڈی کا ایک ٹکڑا توڑنا۔ ــ الفأسَ: کلہاڑی کے دستہ میں پچر لگانا۔ ــ القومُ اليومَ: تھوڑے لوگوں کا ہم سے آ کر ملنا۔ الوَشِيظُ جمع أَوْشاظٌ: تاج، حلیف، قوم میں اجنبی، خسیس، مختلف النسل لوگ۔ ــ والوَشِيظَة جمع وَشائِظُ: لکڑی کا ٹکڑا جس سے لکڑی کا پیالہ جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هم وَشِيظَةٌ في قومهم: وہ قوم میں ادنی لوگ ہیں۔ هو وشيظة فيهم: وہ لوگوں میں ادنی ہے۔

وشع: ا۔ وَشَعَ يَشَعُ وَشْعاً الشيءَ: چیز کو خلط ملط کرنا، ملانا۔ ــ القطنَ: روئی کو لپیٹنا۔ ــ وَشْعاً وُشُوعاً تِ البقلةُ: سبزی کا پھول دار ہونا۔ ــ ہُ الشيءُ: کے اوپر ہونا۔ وَشَّعَ القطنَ: روئی کو دھننے کے بعد لپیٹنا۔ ــ الشيءُ في الشيءِ: ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔ ــ الثوبَ: کپڑے پر بیل بوٹے ڈالنا۔ ــ الشيبُ رأسَهُ: سر پر بالوں کی سفیدی کا ظاہر ہونا۔ ــ القومُ على كَرْمِهم او بُستانِهم: انگوروں کی بیلوں یا باغ کے ارد گرد باڑ لگانا۔ اَوْشَعَ البقلُ او الشجرُ: سبزی یا درخت کا پھول دار ہونا۔ تَوَشَّعَ بالكذبِ: جھوٹ سے مزین ہونا۔ ــ الشيبُ رأسَهُ: سر پر بالوں کی سفیدی ظاہر ہونا۔ ــ الشيءُ: پراگندہ ہونا۔ ــ به: بہت ہونا۔ ــ القومُ الضيوفَ: لوگوں کا مہمانوں کو تقسیم کر کے ہر ایک کا ان کی ایک جماعت کو اپنے گھر لیجانا۔ الوَشْعُ (مص) جمع وُشُوعٌ: سبزیوں کے پھول، شگوفے، پہاڑ میں تھوڑی سبزی۔ الوُشُوعُ: مکڑی کا جالا۔ الوَشُوعُ: پہاڑ کی متفرق نباتات، حلق میں ٹپکانے کی دوا۔ الوَشِيعُ: کپڑے کا منقش بارڈر، گھر کی چھت یا چھت کی لکڑیوں پر ڈالی ہوئی چٹائی، خشک ہو کر گرا ہوا درخت کا حصہ، باغ کے گرد خاردار باڑ، فوج کے افسر کا خیمہ جہاں سے وہ لشکر پر نگاہ رکھتا ہے۔ الوَشِيعَة جمع وَشِيعٌ و وَشائِعُ: رنگ برنگ کے سوت لپیٹنے کا گتا، ہر پیچیدہ چیز، غبار کی دھاری، جلاہے کی نال۔ المُوَشَّعُ (مفع)۔ بُرْدٌ مُوَشَّعٌ: دھاری دار منقش چادر۔

۲۔ وَشَعَ يَشَعُ وَشْعاً و وُشُوعاً الجبلَ و فيه: پہاڑ پر چڑھنا۔ تَوَشَّعَ في الجبلِ: پہاڑ میں دائیں بائیں جانا۔ ــ تِ الغنمُ في الجبلِ: بکریوں کا چرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھنا۔

ⓒ وَشَّعَ ہُ: (روئی) کو لپیٹنا۔ وَشِيع: جنگلا، باڑ۔ وَشِيعَة جمع وَشائِع: ریل (reel) (دھاگے کی) نلکی۔ وشيعة التحريض: برقی تار کا لچھا۔

وشغ: ا۔ وَشَغَ يَشِغُ وَشْغاً ببوله: پیشاب کرنا۔ وَشَّغَ الثوبَ بالدمِ: کپڑے کو خون میں تھیڑ کر دھاری دار کرنا۔ أَوْشَغَ إيشاغاً ببوله: پیشاب کرنا۔ تَوَشَّغَ بالسوءِ: برائی سے آلودہ ہونا۔

۲۔ أَوْشَغَ إيشاغاً العطيةَ: بخشش کم دینا۔ الوَشْغُ والوَشِيغُ: تھوڑا کم۔

وشق: ا۔ وَشَقَ يَشِقُ وَشْقاً ہُ: کو خراش ڈالنا۔ ــ ہ بالرمحِ: کو نیزہ مارنا۔ ــ اللحمَ: گوشت کو پھانکوں میں کاٹنا۔ ــ وَشَّقَ الشيءَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ أَوْشَقَ الشيءُ في الشيءِ: چیز کا چیز سے چپٹنا۔ تَواشَقَ القومُ العدوَّ بأسيافهم: دشمن کو تلواروں سے کاٹنا۔ اِتَّشَقَ القومُ العدوَّ بأسيافهم: دشمن کو گوشت کی طرح تلواروں سے کاٹنا۔ ــ فلانٌ اللحمَ: گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الوَشْقُ (مص): متفرق چارہ۔ الوَشَقُ (ح): ایک درندہ جس کی کھال سے عمدہ پوستین تیار ہوتے ہیں۔ الوَشِيقُ والوَشِيقَة جمع وَشائِقُ: سفر پر ساتھ لیجانے کے لئے ٹکڑوں میں کاٹا ہوا گوشت۔ المِيشاقُ جمع مَواشِيقُ: کنجی کا دندانہ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

۲۔ وَشَقَ یَشِقُ وَشْقًا الرجُلُ: جلدی کرنا۔ الوَاشِق (فا): جلدی گزر جانے والی چیز، جیسے عمر، زمانہ۔
۳۔ الوَاشِق: تھوڑا دودھ، چڑیا، گوریا، کنجشک، باز، شاہین، شکرا۔
○ وَشَق: بن بلاؤ، سیاہ گوش۔
وشک: وَشُكَ یَوْشُكُ وَشْكًا و وَشَاكَةً و وَشُكَ الامرُ: جلدی ہونا صفت: وَشِيك۔ وَاشَكَ مُوَاشَكَةً: تیز چلنا۔ وَشَكَ: جلدی چلنا، قریب پہنچنا۔ اوشَكَ أن يموت: مرنے کے قریب ہونا (ماضی کے مقابلہ میں مضارع کا استعمال زیادہ ہے اور اس سے اسم الفاعل کا استعمال اس سے بھی کم ہے۔ اکثر و بیشتر اس کی خبر کے ساتھ أن آتا ہے۔ الوَشْك و الوُشْك و الوَشْكان و الوِشْكان و الوُشْكان: سرعت۔ کہا جاتا ہے: وَشْكَان ما يكون ذلك: یہ جلد ہونے والا ہے یا کس قدر جلدی ہونے کو ہے۔ (یہ اسم فعل ہے)۔ الوَشَاك: سرعت۔ الوَشِيك (مذکر و مؤنث کے لئے) قریب، جلد تیز، کہا جاتا ہے: خرج وَشِيكًا: وہ تیزی سے نکلا۔
○ وَشُكَ يَوْشُكُ وَشْكًا و وشاكةً و وَشَكَ: جلدی ہونا۔ اَوْشَكَ أن: کو کرنے کو ہی ہونا، کو کرنے ہی لگنا۔ — أن/علی: کو کرنے کے قریب ہونا۔ — علی: کے قریب ہونا۔ يوشكُ أن: (وہ) قریب قریب یا قریباً۔ وشْك وُشك: رفتار، تیزی، پھرتی، جلدی، عجلت۔ علی وشك ان: کو کرنے کو ہی ہونا، کو کرنے ہی لگنا، کو کچھ کرنے کے قریب ہونا۔ علی وشك الخروج: باہر جانے کے قریب ہونا، باہر جانے لگنا۔ وَشكان: رفتار، تیزی، پھرتی، جلدی، عجلت۔ وَشِيك: قریب، نزدیک، سر پر کھڑا، آنے ہی والا، عن قریب ہونے والا، قریبی۔ وَشِيكُ الزوال: جلد تباہ ہونے والا۔ وشيك الحلّ: حل کے قریب، تقریباً حل شدہ (مسئلہ)۔
وشل: ۱۔ وَشَلَ يَشِلُ وَشْلًا و وَشَلانًا الماءُ: پانی کا بہنا، ٹپکنا۔ — وَشْلًا: کمزور ہونا، مفلس ہونا۔ اَوْشَلَ الماءَ: پانی کو تھوڑا پانا۔ — حَظَّهُ: کا حصہ تھوڑا یا کم کرنا۔ الواشل (فا) من الجبال: وہ پہاڑ جس سے پانی ٹپک رہا ہو۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ واشِلُ الرأی: فلاں شخص کمزور رائے والا ہے۔ هو واشِلُ الحظّ: وہ ناقص اور تھوڑے حصے والا ہے۔ الوَشَل جمع وِشَال: تھوڑے آنسو، چٹان یا پہاڑ سے ٹپکنے والا پانی، بہت پانی یا آنسو۔ (ضد) کہا جاتا ہے: جاءوا وَشَلًا وَشَلًا: لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آئے۔

عیونٌ وَشْلَةٌ: تھوڑے پانی والے چشمے۔ الوُشُول: دولت کی کمی، نقصان، کمی۔ ناقةٌ وَشُولٌ: بہت دودھ والی اونٹنی، تھوڑا دودھ دینے والی اونٹنی (ضد)۔
۲۔ وَشَلَ يَشِلُ وُشُولًا اليه: سے خاکساری ظاہر کرنا۔ الوَشَل: ہیبت، خوف۔
○ وَشَل جمع اَوْشَال: ٹپکتا پانی، ٹپکتے آنسو۔
وشم: وَشَمَ يَشِمُ وَشْمًا اليدَ: ہاتھ گودنا۔ وَشَّمَ الغصنُ: شاخ کا پتے نکالنا۔ — اليدَ: ہاتھ گودنا۔ اَوْشَمَ اِيْشَامًا المكانُ: جگہ کا سبزہ اُگنا۔ — الكرمُ: انگور کا رنگ پکڑنا۔ — الشيبُ فی رأسه: سر میں بڑھاپے کی سفیدی ظاہر ہونا۔ — البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ — ت السماءُ: آسمان میں بجلی کا کوندنا۔ — ت الجاريةُ: لڑکی کے پستانوں کا ابھرنے لگنا۔ — فی عرض فلان: کو گالی دینا، پر عیب لگانا۔ — فی الامر: پر غور و تامل کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَوْشَمَ يفعلُ كذا: وہ ایسا کرنے لگا۔ اِسْتَوْشَمَ اِسْتِيشَامًا: گودنے کے لئے کہنا یا اس کا ارادہ کرنا۔ الوَشْم (مص) جمع وُشُوم و وِشَام: گودائی، گودنے کے نشانات، پہلے ظاہر ہونے والی نباتات۔ الوَشْمة: وشم کا اسم مرة؛ بارش کا قطرہ۔ کہا جاتا ہے: ما عصاهُ وَشْمَةً: اس نے اس کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کی۔ الوَشِيمَة: برائی، دشمنی۔ کہا جاتا ہے: بينهما وشيمةٌ: ان دو کے درمیان تو تکار، لڑائی اور دشمنی ہے۔
○ وَشَمَ يَشِمُ وَشْمًا و وَشَّمَ ه: کو گود کر نقش بنانا (tatoo)۔ وَشْم جمع وِشَام و وُشُوم: گودا ہوا نقش، گودنے کا نشان۔ وَشِيمَة: دشمنی، بیر، لڑائی، جھگڑا، فساد، کینہ، بغض، عناد، بداندیشی۔
وشن: تَوَشَّنَ الماءُ: پانی کا کم ہونا۔ الوَشْن: بلند زمین، موٹا اونٹ۔ الاَوْشَن: دستر خوان پر کھانے کا ساتھی۔
وشی: ۱۔ وَشَى يَشِی وَشْيًا و شِيَةً الثوبَ: کپڑے کو رنگوں سے مزین کرنا اور اس پر نقش و نگار بنانا۔ — الكلامَ: کلام میں جھوٹ بولنا۔ — وَشْيًا و وِشَايَةً به الی الملك: بادشاہ سے کسی کی چغل خوری کرنا۔ وَشَّى ذ ثوبًا: کو کپڑا پہنانا۔ — الثوبَ: کپڑے کو رنگوں سے مزین کرنا، کپڑے پر نقش و نگار بنانا۔ — الكلامَ: کلام میں جھوٹ بولنا۔ اَوْشَى اِيشَاءً المكانُ: کسی جگہ نباتات اُگنا۔ — ت النخلةُ: درخت خرما کا پہلا پھل لانا۔ — المعدنُ: کان میں سونے کا تھوڑا پایا جانا۔ — نقش و نگار والا ہونا۔

— الشيبُ فی رأسه: بڑھاپے کے سفید بالوں کا سر میں پھیل جانا۔ استوشی المعدنُ: کان میں سونے کا تھوڑی مقدار میں پایا جانا۔ الوَاشِی (فا) جمع وَاشُون و وُشَاة: چغل خور، جلاہا۔ الشِيَة (مص) جمع شِيَات: ہر وہ رنگ جو کسی چیز کے زیادہ رنگوں کے مخالف ہو، علامت، نشان۔ الوَشْی (مص) جمع وِشَاء: کپڑے کے نقش و نگار، نقش و نگار والے کپڑے۔ وَشْیُ السيف: تلوار کا جوہر۔ الوَشَّاء: سونے پر ٹھپہ لگانے والے۔ الوَشَّاء: بہت چغل خور، نقش و نگار والے کپڑے بیچنے والا۔ الأَشْيَة: داغ دار۔ ثورٌ اَشْيَةُ: داغ دار بیل۔ نست کیلئے۔ وشوٌ کہا جاتا ہے۔
۲۔ وَشَى يَشِی وَشْيًا و وِشَايَةً بنو فلان: کی اولاد کا زیادہ ہونا۔ اَوْشَى اِيشَاءً الرجُلُ: کے مویشیوں کا زیادہ ہونا اور نسل بڑھانا۔ — الشیءَ: چیز کو نکالنا، کو جاننا۔ — الفرسَ: گھوڑے کو اکسانا۔ — الدواءُ المريضَ: دوا کا بیمار کو تندرست کرنا۔ — فی الدراهم: کچھ درہم لینا۔ اِيْتَشَى اِيتِشَاءً العظمُ: شکستہ ہڈی کا ٹوٹ کر درست ہونا۔ اسْتَوْشَى الفرسَ: گھوڑے کو اکسانا۔ — الحديثَ: پر بحث کرنا، کو جمع کرنا۔ — الرجُلَ: سے مانگنا، کے ہاتھ میں جو کچھ ہو اسے نکالنا۔ الوَاشِی جمع وَاشُون و وُشَاة: بہت اولاد اور مویشیوں والا۔ الوَشَاء: اونٹوں کی کثرت۔
○ وَشَى يَشِی وَشْيًا ه: (کپڑے) کی تزئین کرنا، کپڑے کو کئی رنگوں سے خوشنما بنانا، کپڑے پر سوزن کاری کرنا۔ وَشْيًا و وِشَايَةً ب الی: پر کا بہتان باندھنا، کو سے بدنام کرنا، رسوا کرنا، سے کی بدگوئی کرنا۔ — ب: کے خلاف مخبری کرنا، کو علانیہ مجرم ٹھہرانا، کو برا بھلا کہنا، ملامت کرنا، کو دغا دینا، سے غداری کرنا۔ وَشَّى ه: (کپڑے) کی تزئین کرنا، کپڑے کو کئی رنگوں سے خوبصورت و خوشنما بنانا، کپڑے پر سوزن کاری کرنا۔ شِيَة جمع شِيَات: بڑا سا بدرنگ دھبہ، دھبا، داغ، نشان، خرابی، عیب، نقص، علامت۔ وَشْی جمع وِشَاء: کئی رنگوں سے کی گئی زیبائش، تزئین، سوزن کاری۔ سوزن کاری کیا ہوا یا چھاپا ہوا کپڑا۔ وَشَّاء: سوزن کاری والا یا چھاپہ شدہ کپڑے بیچنے والا۔ وِشَايَة: رسوائی یا بدنامی، ہتک عزت، بہتان، تہمت، اتہام۔ تَوْشِيَة: سجاوٹ، تزئین، آرائش، زیبائش، سوزن کاری۔ واشٍ جمع واشون و وُشاة: غدار، دغاباز، بہتان لگانے والا،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بدگوئی کرنے والا، مخبر، برا بھلا کہنے والا۔

وص ا۔ وَصَّ يَوُصُّ وَصًّا العملَ: کام کو مضبوط بنانا۔ وَصّصَ توصيصًا ت المرأةُ: عورت کا نقاب کو تنگ کرنا۔

۲۔ وَصْوَصَ عينَهُ: نظر جمانے کے لئے آنکھ کو تنگ کرنا، پردہ کے سوراخ سے دیکھنا۔ ـــ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنا۔ ـــ ت الجارية: برقع میں سے لڑکی کی صرف آنکھوں کا نظر آنا۔ الوَصْوَص و الوَصْوَاص جمع وَصَاوِص و وَصَاوِيص: پردہ میں آنکھ کے برابر سوراخ، چھوٹا برقع۔ الـوَصاوِص: زمین کے بڑے بڑے پتھر۔

☜ وَصْــوَص: سوراخ یا درز سے جھانکنا، چوری چوری دیکھنا۔ وَصْوَص و وَصْواص جمع وَصاوِص: جھانکنے کا سوراخ۔ وَصْوَصَة: جھانکنا، چوری چوری دیکھنا، دزدیدہ نظر۔

وصی وَصِيَ يَوْصَا وَصًا الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔

وصب: ا۔ وَصَبَ يَصِبُ وُصُوبًا: دائم رہنا، ثابت رہنا۔ ـــ الدَّينُ: قرض لازم ہونا۔ ـــ على الأمر: کام کو کرتے رہنا، کو حسن کارانہ طریقہ سے کرنا۔ وَصِبَ يَوْصَبُ وَصَبًا و وَصَبًا: بیمار ہونا، بیمار پڑنا صفت: وَصِب جمع وَصَابَى و وِصاب۔ وَاصَبَ على الامر: کو کرتے رہنا۔ اَوْصَبَ: بیمار ہونا، بیمار پڑنا۔ ـــ اللهُ فلانًا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیمار کرنا، بیماری میں مبتلا کرنا۔ اَوْصَبَ الرجلُ: بیمار اولاد والا ہونا۔ ـــ الشيءُ: دائم ہونا، ثابت ہونا۔ ـــ على الامر: کو کرتے رہنا۔ تَوَصَّبَ: بیمار ہونا، بیمار پڑنا، درد پانا۔ الوَاصِب (فا): دائم۔ الوَاصِبة: الواصب کا مؤنث: بہت دور تک پھیلا ہوا بیابان جو ختم ہوتا نظر نہ آئے۔ الوَصَب جمع اَوْصاب: دائمی بیماری، درد، جسم کی لاغری، تھکن، سستی۔ المُوَصَّب: بہت دردوں والا۔

۲۔ الوَصَب جمع اَوْصاب: بنصر اور سبابہ کے درمیان کا حصہ۔

☜ وَصَبَ يَصِبُ وُصُوبًا: جاری رہنا، رہنا۔ وَصِبَ يَوْصَبُ وَصَبًا و تَوَصَّبَ: (دائمی طور پر) بیمار ہونا۔ وَصَب جمع اَوْصاب: بیماری، بے آرامی، سختی، تکلیف، مصیبت۔ وَاصِب: پائدار، مضبوط، مستقل۔

وصد: ا۔ وَصَدَ يَصِدُ وَصْدًا: ثابت رہنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑا بننا۔ ـــ بالمكان: کسی جگہ قیام کرنا۔ وَصَّدَ الثوبَ: کپڑا بننا۔ اَوْصَدَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ ـــ القِدرَ: ہانڈی ڈھانکنا۔ ـــ على فلان: کو تنگ کرنا۔ ـــ و اسْتَوصَدَ: پہاڑ میں مویشیوں کے لئے باڑہ بنانا۔ الـوِصاد: بندش، ڈھکائی (دروازہ بند کرنا، ہانڈی ڈھکنا)۔ الوَصَّاد: جولاہا۔ الوَصِيد جمع وُصُد: تنگ، بند کیا ہوا، قریب قریب جڑوں والی نباتات، غار چوکھٹ، گھر کا صحن، پہاڑ، دوبارہ ختنہ شدہ۔ ـــ و الوَصِيدة جمع وَصائِد: پہاڑ میں مویشیوں کا باڑہ۔ المُوْصَد: پردہ۔

۲۔ وَصَّدَ الكلبَ بالصيد: کتے کو شکار پر بھڑکانا۔ اَوْصَدَ الكلبَ بالصيد: کتے کو شکار پر بھڑکانا۔

۳۔ وَصَّدَ فلانًا: کو ڈرانا۔

☜ وَصَدَ يَصِدُ وَصْدًا: ثابت و مضبوط ہونا، مضبوطی سے قائم رہنا۔ اَوْصَدَ ه: (دروازہ) بند کرنا۔ اَوْصَدَ البابَ في وجهه: کا راستہ روکنا، کو آنے نہ دینا۔ وَصِيد: چوکھٹ، دہلیز۔

وصر: الوِصر جمع اَوَاصِر: عہد ـــ و الوصيرة و الأوصر: عہد نامہ، چیک، دستاویز۔

وصع: وَصَعَ يَصَعُ وَصْعًا الشيءَ: کو پوشیدہ کرنا۔

وصف: وَصَفَ يَصِفُ وَصْفًا و صِفَةً الشيءَ: کو بیان کرنا، کی تعریف کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو بیٹھا کرنا۔ ـــ الطبيبُ للمريض: طبیب کا مریض کے لئے دوا تجویز کرنا۔ ـــ وُصُوفًا الفرسُ: گھوڑے کا عمدگی سے چلنا۔ وَصُفَ يَوْصُفُ وَصَافَةً الغلامُ: لڑکے کا خدمت کرنے کے لائق ہو جانا۔ صفت: وَصِيف۔ اسم الايصاف و الوَصَافة۔ وَاصَفَ هُ: کوئی چیز اس کی صفت بتا کر فروخت کرنا۔ اَوْصَفَ ايصافًا الغلامُ: لڑکے کا نوکری کے لائق ہونا۔ تَوَصَّفَ وَصِيفًا أو وَصِيفةً: خادم یا خادمہ خادم یا خادمہ بنانا۔ تَوَاصَفَ القومُ الشيءَ: کو ایک دوسرے سے بیان کرنا۔ اِتَّصَفَ الشيءُ: چیز کا قابل بیان ہونا۔ ـــ الرجلُ: اچھی صفات سے ستودہ ہونا۔ ـــ بالصفات الحميدة: ستودہ صفات والا ہونا۔ اِسْتَوْصَفَ فلانًا الشيءَ: کو کوئی چیز بیان کرنے کے لئے کہنا۔ ـــ الطبيبَ: حکیم سے نسخہ تجویز کرانا۔ ـــ الغلامُ: لڑکے کا قابل خدمت ہونا۔ الصِفة (مص): صفت، خوبی، وہ علامت جس سے موصوف پہچانا جائے۔ الصِفاتية: واحد صفاتی ایک فرقہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ہے اور صرف ذات الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ الـوَصْفِيَة: صفت کی حالت۔ الوَصَّاف: صفت سے واقف۔ طبیب۔ الوَصِيف جمع وُصَفاء مونث وَصِيفة جمع وَصائِف: خدمت کے قابل لڑکا۔ المُسْتَوصَف: کلینک، چھوٹا ہسپتال۔

☜ وَصَفَ يَصِفُ وَصْفًا ه/ ه: کی صفت بیان کرنا، کے متعلق کہنا کہ، کو لفظوں میں بتانا، بیان کرنا، کا حال بیان کرنا، کی تصویر یا نقشہ کھینچنا، کی لفظوں میں تصویر کھینچنا، کی خاصیت بیان کرنا، کا امتیازی وصف بیان کرنا، کی کردار نگاری کرنا۔ ـــ ه: کی تعریف کرنا، کی ستائش کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا۔ ـــ ه ب: سے کوئی چیز منسوب کرنا، سے کی نسبت دینا۔ ـــ ه ب: کو کا حامل سمجھنا، کو کا مالک خیال کرنا، کی کے لئے تعریف کرنا۔ ـــ ب ه: کو کی نیک نامی میں کہنا۔ ـــ ه ل: دوا کا نسخہ کے لئے لکھنا، کوئی دوا کے لئے تجویز کرنا۔ لا يُوصَف: ناقابل بیان، مبہم، نرالا، عجیب، انوکھا۔ وَاصَفَ ه: ایک دوسرے سے کسی چیز کا حال بیان کرنا، کو ایک دوسرے کو بتانا۔ اِتَّصَفَ: بیان کیا جانا۔ ـــ ب: کا بطور خوبی یا بخصوصیت حامل ہونا، مالک ہونا، (کی وجہ) سے ممتاز ہونا، معروف ہونا، مشہور ہونا، متصف ہونا، واضح ہونا۔ اِسْتَوْصَفَ ه: (ڈاکٹر، حکیم) سے مشورہ کرنا، رجوع کرنا، پوچھنا۔ صِفَة جمع صِفَات: خوبی، کمال، قسم، خاص بات، کیفیت، ماہیت، خاصہ، وصف، صفت، خصوصیت، امتیازی نشان، انوکھا پن۔ صفت (گرامر)، طریقہ، اسلوب۔ بِصِفَة: بطور، کی حیثیت سے۔ بِصِفَتِهِ وزيرًا: وزیر کی حیثیت سے، بطور وزیر۔ بِصِفَةٍ خاصة: خاص کر، بالخصوص، خصوصاً۔ بِصِفَةٍ غير رسمية: غیر سرکاری طور پر، غیر مصدقہ طور پر۔ وَصْف: بیان، توصیف، وصف، تصویر کشی، حلیہ کشی، نقل، امتیاز، خاصہ، نشان جمع اوصاف: خوبی، کمال، خاصہ، خصوصیت، وصف، امتیازی نشان، انوکھا پن، صفت (گرامر) اَوْصَاف (جمع) کسی شخص کا بیان۔ شيءٌ يفوق الوصف: ناقابل بیان چیز، بیان کی دسترس سے باہر (چیز)۔ أَخَذَ اَوْصَافَهُ: کا بیان قلمبند کرنا۔ وصفة: بیان، تصویر کشی، حلیہ کشی، نقل، طبی نسخہ۔ وَصْفِي: توصیفی، بیانی، تصویر کشی کا۔ وَصَّاف: بیان کرنے والا، تصویر کشی کرنے والا۔ وَصِيف جمع وُصَفاء: نوکر، خادم، ملازم لڑکا۔ وَصِيفَة جمع وَصَائِف: نوکرانی، خادمہ، ملکہ یا شہزادی کی مصاحب خاتون، ملازمہ، مصاحبہ، بن بیاہی عورت جو ملکہ یا شہزادیوں کی مصاحب ہو۔ مُوَاصَفَة: بیان، توضیح، تشریح، ترجمانی، تفصیل، تصریح۔ جمع مواصفات: تفصیلات، تصریحات۔ مواصفة العلاج: علاج

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کے لئے ہدایات، موصوف: بیان کردہ، نقل کردہ، لفظوں میں تصویر کھینچا ہوا، تصویر کشی کیا ہوا، نسخہ لکھا ہوا، تصور کردہ۔ ــــ ب ــ سے متصف، کا حامل، اسم جس کے بعد صفت ہو۔ مُتَّصِف ب ــ سے متصف، کا حامل، کا مالک۔ مُسْتَوْصَف جمع مُسْتَوْصَفَات: کلینک (clinic)۔

وصل: وَصَلَ يَصِلُ وَصْلاً و صِلَةً وَصُلَةً الشيءَ بالشيءِ: چیز کو چیز سے جوڑنا، کو میں جمع کرنا۔ ــ هُ بالف دينار: کو ہزار دینار دینا۔ ــ وَصْلاً و صِلَةً زيداً: زید سے نیکی کرنا، زید کو دینا۔ ــ رَحِمَهُ: رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ــــ فلاناً: سے تعلق رکھنا۔ وُصُولاً و وُصْلَةً و صِلَةً الى المكان: کسی جگہ پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: وصلني الخبرُ و وصل إليَّ الخبر: مجھے خبر پہنچی۔ ضربه ضربةً لا توصل: اس نے اسے ناقابل علاج ضرب لگائی۔ وَصَّلَ الشيءَ بالشيءِ: چیز کو چیز سے جوڑنا، مربوط کرنا، باندھنا۔ ــــ و أَوْصَلَ فلاناً الى كذا: کو تک پہنچانا۔ وَاصَلَ وِصَالاً و مُوَاصَلَةً الشيءَ و في الشيءِ: کو جاری رکھنا، کو کرتا رہنا۔ ــــ هُ: سے تعلق رکھنا۔ تَوَصَّلَ الى كذا: تک پہنچنا۔ ــ إلى فلان: تک پہنچنے کے لئے حیلہ کرنا۔ تَوَصَّلَ اليه بوُصْلَةٍ و سبب: تک رسائی حاصل کرنا، کو رشوت دینا۔ تَوَاصَلَ الرجلان: ایک دوسرے سے تعلق رکھنا۔ اِتَّصَلَ بالشيءِ: سے ملنا، جڑنا۔ ــ اليه: تک پہنچنا۔ ــ بي خبرُ فلانٍ: میں اس سے باخبر ہوا۔ ــــ فلانٌ بالوزير: وزیر کی خدمت میں لگنا۔ ــــ إلى بني فلان: سے منسوب ہونا۔ اِسْتَوْصَلَ: میل و اتحاد ڈھونڈنا۔ الصِلة (مص) جمع صِلات: عطیہ، احسان، انعام۔ الوَصْل (مص): ليلةُ الوَصْل: قمری مہینہ کی آخری رات۔ حرف الوصل عند اهل القوافي: متحرک روی کے بعد آنے والے حرف یعنی واو یا یاء یا الف یا هاء۔ کہا جاتا ہے: هذا وصلُ هذا: یہ اس کے مثل ہے۔ الوُصْل والوِصْل جمع أوصال: عضو، جوڑ۔ الوُصْلَة (مص) جمع وُصَل: ملاپ، تعلق، دو چیزوں کو ملانے والی چیز، دور کا ملک، سفر کے ساتھی۔ الوَصُول: بہت میل رکھنے والا، بہت دینے والا۔ الوُصُول (مص): جمع وُصُولات (ت): وصولی کی رسید۔ الوُصُولِيّ: ایسا طامع جو ہر قیمت پر اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کرے، نو دولت، نیا نواب، نیا امیر۔ الوُصُولِيَّة: نو دولتی پن، نوابی۔ وَصِيلُ الرجلِ: ہمیشہ ساتھ رہنے والا، مثل۔ کہا جاتا ہے: هذا رجلٌ وصيلُ هذا: یہ اس جیسا آدمی ہے۔ الوَصِيلَة جمع وَصَائِل: جوڑنے والی چیز، دھاگے کا گولہ یا پیچک، وسیع و دور دراز ملک، عمارت، ارزانی، وصیل کا مؤنث، سفر کے ساتھی۔ ــ جمع وَصِيل و وَصَائِل: دھاری دار کپڑا۔ اِتِّصالُ النَيِّرَين (فلك): سورج اور چاند کا اتصال یا ان کا بالمقابل ہونا۔ المَوْصِل: رسی وغیرہ کا جوڑ یا مقام اتصال۔ مَوْصِلُ البعير: اونٹ کے پڑے اور ران کا درمیانی حصہ، موت، عراق اور جزیرے کے درمیان ایک شہر کا نام۔ المَوْصِلان: موصل اور جزیرہ۔ المَوْصُول (مفع) (ح): ایک قسم کی بحر۔ المُسْتَوْصِل (فا): المُسْتَوْصِلَةُ من النساء: اپنے بالوں میں دوسرے کے بال لگانے والی عورت۔

ت وَصَلَ يَصِلُ وَصْلاً وصِلَةً ہ ب: کو سے جوڑنا، کو سے نتھی کرنا، منسلک کرنا، کو کے ساتھ لگانا۔ ــ صِلَةً: ربط قائم کرنا، تعلق، رابطہ، یا رشتہ قائم کرنا۔ ــــ بين و ــ: کے اور کے درمیان رشتہ قائم کرنا، ربط یا تعلق کام میں لانا۔ ــــ ہ ب: کو کچھ دینا، کو کچھ عطا کرنا، کو کچھ انعام دینا۔ ــــ وُصُولا ہ/الی: کسی ذو تک پہنچنا۔ ــ ہ/الی: کے ہاتھ آنا۔ ــ ہ/ ہ یا إلی: کے پاس کچھ پہنچنا، کے پاس کچھ آنا۔ ــ ہ/إلی: کوئی رقم پہنچنا، (حساب میں) میزان آنا، کا کے مرادف ہونا، معنی یہ ہونا کہ، مطلب یہ ہونا کہ یا گویا کہ۔ ــــ إلی: کسی جگہ داخل ہونا۔ ــ ب الی: کو تک لیجانا۔ وَصَلَنِي خطابٌ: مجھے ایک خط ملا ہے۔ وصله الخبر: اسے خبر پہنچی۔ يصلُ هذا إلى حدٍ كذا: یہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ جہاں۔ وصل الى الصفحة الحاسمة: فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہونا۔ وَصَّلَ ہ ب: کو کے ساتھ جوڑنا، مربوط کرنا۔ ــ ہ/ ہ إلی: کو تک پہنچانا۔ ــ ہ/ ہ ہ: دیکھنا کہ کوئی شخص یا چیز تک پہنچتی ہے۔ ــ ہ/ ہ إلی: کسی شخص یا چیز کو تک لیجانا۔ ــ ہ: کو لفٹ دینا۔ ــ ہ إلی: کو کسی شخص یا جگہ منتقل کرنا، کو کسی شخص یا چیز تک پہنچانا، بھیجنا، ارسال کرنا، منتقل کرنا۔ وَصَّلَ: موصل کے طور پر کام کرنا (برق کا)۔ ــ ہ إلی: کے ساتھ تک جانا، حفاظت کے لئے کسی کے ہمراہ کسی جگہ تک جانا، تک کی رفاقت کرنا۔ ــ ہ إلی: کو برقی رو (سرکٹ) سے جوڑنا۔ ــ ہ ب: برقی آلہ کو دوسرے برقی آلہ سے جوڑنا۔ ــــ وَاصَلَ ہ: کو جاری رکھنا [illegible]

رہنا، برقرار رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ ــــ ہ: سے جڑا ہونا، مربوط ہونا، سے متعلق ہونا، علاقہ رکھنا۔ ــ ہ: کا قریبی دوست ہونا، کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنا، قائم رکھنا۔ ــــ ها: عورت سے مباشرت کرنا، مجامعت کرنا۔ وَاصَلَ الليلَ بالنهار: دن رات کام کرنا۔ وَاصَلَ جَهْدَه يا سَعْيَهُ في: کے لئے انتھک کوششیں کرنا۔ اَوْصَلَ (بمعنی وَصَّلَ نیز): طویل مسافت کا ٹیلیفون کرنا۔ اَوْصَلَ كلَّ ذي حقٍ بحقِّهِ: ہر ایک کو اس کا جائز حق دینا، واجب الادا رقم، واجبات یا مواجب ادا کرنا۔ تَوَصَّلَ إلی: تک رسائی حاصل کرنا، تک بعض ذرائع سے پہنچنا، کسی نہ کسی طرح تک پہنچنا، میں آنا، میں پہنچنا، کو حاصل کرنا یا پانا۔ تَوَاصَلَ: باہم متصل ہونا، ایک لگاتار سلسلہ بنانا۔ اِتَّصَلَ ب: سے جڑنا، مربوط ہونا، سے متحد ہونا، سے یکجا ہونا؛ سے رابطہ کرنا، سے رابطہ قائم کرنا، سے ربط رکھنا، سے متعلق ہونا، سے علاقہ رکھنا، سے مربوط ہونا، سے وابستہ ہونا، سے آملنا، میں شامل ہونا، کسی شخص یا چیز کے قریب ہونا، سے متصل، ملحق یا ملا ہوا ہونا، غیر منقطع ہونا، کی ملک ہونا، کا رکن یا فرد ہونا، کے علم میں آنا۔ وَاصَلَ: جاری ہونا، مسلسل ہونا، ایک لگاتار سلسلہ بنانا۔ ــــ الی: کا رشتہ دار ہونا، کی اصل نسل، پشت پیڑھی یا مذہب کا پتہ لگانا، کے پاس آنا، تک پہنچنا، میں پہنچنا۔ قد اِتَّصَلَ بنا ان: ہمارے علم میں آیا ہے کہ...... اِتَّصَلَ بِهِ تلفونيا: سے بذریعہ ٹیلیفون رابطہ کرنا، سے رابطہ کرنا۔ اِتَّصَلَت به النارُ: آگ پکڑ لینا، آگ لگ جانا۔ صِلَة جمع صِلات: اتصال، تعلق، رشتہ، رابطہ، واسطہ، کڑی، حلقہ، بندھن، رشتہ داری، تحفہ، عطیہ۔ صِلَةُ الوصل: ملانے والا رابطہ۔ وَصْل: اتصال، تعلق، رابطہ، اتحاد، اتفاق، دھڑا، ایکا، انسلاک، رشتہ، خاکہ، خلاصہ، ملخص، تلخیص، عاشق و معشوق کا اجتماع جمع اَوْصال: تعلق، رابطہ، رشتہ، پیوند، اتصال جمع وُصُولات: ووچر، رسید۔ وصل الفائت: گزشتہ قسطوں کا خلاصہ۔ ليلة الوصل: قمری مہینہ کی آخری رات۔ وُصْل و وِصْل جمع اَوْصال: بازو یا ٹانگ، جمع جوڑ۔ حلّ اوصالَهُ یا قطَعَ اَوْصالَه: کے عضو عضو الگ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جوڑ جوڑ الگ کرنا، چیرنا، پھاڑنا۔ وُصْلَة جمع وُصُلات و وُصَل: اتصال، تعلق، رشتہ، ربط، جوڑ، وابستگی، ملانا، جوڑنا، جوڑ پابند، قبضہ، قلابہ، چول، جوڑنے والا انکڑا، جوڑنے کا کنڈا، حلقہ۔ دو پرزوں کو ملانے کا کانٹا، زائد اوراق جو کتاب میں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

داخل کر دیے جائیں، جیسے نقشے ضمیمے وغیرہ، اندراج، شمولیت، ایک حد تک انطباق، خطِ رابطہ، نشانِ الحاق (—) وُصْلَةُ التَّسَدُّد: توسیع کا جوڑ۔ وُصْلِيَة: ملانے والی سڑک، پہلو کی سڑک، معاون سڑک۔ وُصُول: آمد، حصول، یافت، کامرانی۔ رسید جمع وُصُولات: رسید، ووچر۔ وُصُولي: جو بہت چھوٹی حیثیت سے امیر یا صاحب اقتدار بن گیا ہو، نودولتیا، چھچھورا، کم ظرف، نیا امیر۔ وَصِيل: جدا نہ ہوسکنے والا دوست، دلی دوست، ہم نوالہ ہم پیالہ، یارِ غار، بے تکلف دوست۔ المَوْصِل: شمالی عراق کے ایک شہر کا نام۔ تَوْصِيل: متحد کرنا، جوڑنا، مربوط کرنا، سپلائی، دانہ، گھاس، چارہ، دودھ راتب، خوراک، ہری بھری کھیتی، مشین یا بندوق میں ڈالنے کی چیزیں، تعلق، اتصال، برقی اتصال، معاون تار، مشین میں سامان پہنچانے والا آلہ، برقی سرکٹ، جوڑ، ترسیل، خبر رسانی، اطلاع پہنچانا، ابلاغ، نشریہ، انتقال، ایصال بھیجنا، ارسال کرنا جمع تَوَاصِيل: رسید، ووچر۔ سَدَّاد التوصيل: پلگ (plug)۔ وِصَال: اجتماع، عاشق و معشوق کا اکٹھا ہونا (محبت میں)، راز و نیاز۔ مُوَاصَلَة: تعلق، جاری رکھنا جمع مواصلات: مواصلات، مواصلاتی لائنیں، اسباب المواصلات: مواصلات، ذرائع مواصلات۔ طُرُقُ المواصلات: آمد و رفت کے راستے۔ وزارة المواصلات: وزارتِ مواصلات۔ ایصال جمع ایصالات: جوڑنا، ملانا، اتصال، متحد کرنا، اتحاد، تعلق، ترسیل، خبر رسانی، اطلاع، ٹرانسپورٹ، ارسال، پہنچانا، نقل و حمل، طویل مسافت کی ٹیلیفون کال کرنا، رسید، ووچر۔ بِتَوَاصُلٍ: لگاتار، متواتر، پے در پے۔ علی اتصالٍ ب: سے رابطہ میں۔ اِسْتَمَرَّ فی اتصالہ بہ: سے رابطہ رکھنا۔ نُقَطُ الاتصال: رابطہ کی جگہیں۔ اتصال تلیفونی: ٹیلیفونی رابطہ۔ مَوْصُول: بندھا ہوا، جکڑا ہوا ـــ ب: سے جڑا ہوا، چپکا ہوا، پر لگی ہوئی (آنکھیں)۔ اسم موصول آیاماً مَوْصُولَةً: چند یا کئی لگاتار دن، کچھ عرصہ۔ مُوَصِّل جمع مُوَصِّلات: موصل (conductor)۔ مُتَوَاصِل: متواتر، پے در پے، مسلسل، لگاتار، غیر منقطع۔ مُتَّصِل: متواتر، پے در پے، مسلسل، لگاتار، ملحقہ، متصل، ملحق، ملا ہوا۔ مُتَّصِلُ الحلقات: باہم مربوط، قریب قریب جڑا ہوا، مسلسل۔

وصم: وَصَمَ يَصِمُ وَصْماً العودَ او العظمَ: لکڑی یا ہڈی میں شگاف ڈالنا ـــ الشيءَ: کو جلدی باندھنا، کو ناکارہ کرنا، بگاڑنا، خراب کرنا۔ وَصَّمَ الرجلُ: اعضاء شکنی والا ہونا ـــ فلاناً: کو شکستہ و کاہل کرنا، تکلیف دینا ـــ ت الحمیَّ فلاناً: بخار کا کسی کو تکلیف دینا۔ تَوَصَّمَ: تکلیف و درد والا ہونا۔ تَوَاصَمَ القومُ: ایک دوسرے کو عیب لگانا۔ الوَصْم (مص) جمع وُصُوم: لکڑی کی گانٹھ، عیب، عار۔ الوَصَم: بیماری۔ الوَصْمَة: جسم کی سستی، عیب، عار۔ الوَصِيم: خنصر و بنصر کے درمیان کی جگہ۔ المَوْصُوم (مفع): کہا جاتا ہے: رَجُلٌ مَوْصُومُ الحسب: عیب دار حسب والا آدمی۔

⊂ وَصَمَ ه: (نام، عزت) کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، داغ لگانا، آلودہ کرنا، دھبا لگانا، بدنام کرنا، پر کلنک کا ٹیکہ لگانا ـــ ه ب: پر کا الزام لگانا ـــ ه ب: کو بدنامی سے تکلیف میں ڈالنا۔ تَوَصَّمَ: عزت و آبرو کا آلودہ ہونا، داغدار ہونا۔ وَصْمَه: بے عزتی، بے وقری، رسوائی، ذلت، کلنک کا ٹیکہ، داغ، دھبے کا نشان، نقص، کمی، عیب، کوتاہی، قصور، بیماری کی حالت، بیماری سے پہلے کی بے چینی، بے قراری۔ توصيم: بیماری کی حالت، بیماری سے پہلے کی بے چینی یا بے قراری۔

وصی: ۱۔ وَصَى يَصِي وَصْياً الشيءُ به: کے متصل ہونا ـــ الشيءَ بآخرَ: چیز کو دوسری چیز سے ملانا ـــ وَصْياً و وَصَاءَةً المكانُ: جگہ کا متصل نباتات والی ہونا ـــ النبتُ: نباتات کا بکثرت ہونا اور ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا۔ وَصَّى فلاناً بكذا: سے کسی کام کا عہد لینا، کو کسی کام کا اشارہ کرنا ـــ اِلى فلانٍ: کسی کو اپنے مرنے پر اپنے مال اور بال بچوں پر وصی بنانا ـــ فلاناً بولدِه: کو اپنے بچوں پر مہربان بنانا ـــ اليه بالصلاة: کو نماز کا حکم دینا۔ کہا جاتا ہے: وَصَّاه بفلان ان يحسن اليه: کو کسی سے حسن سلوک کا حکم دینا۔ وَصَّيْتُ لهُ بكذا: میں نے اس کو اپنی موت کے بعد مالک بنایا۔ واصَى البلدُ البلدَ: ایک شہر کا دوسرے شہر سے متصل ہونا۔ اَوْصَى ايصاءً فلاناً بكذا: کسی سے کسی کام کا عہد لینا، کو کا حکم دینا ـــ لهُ بكذا: کے لئے کسی چیز کی وصیت کرنا ـــ اليه: کو وصی مقرر کرنا۔ تَوَاصَى تَوَاصِياً القومُ: ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ اِسْتَوْصَى اِسْتِيصَاءً بفلان: کسی کے بارے میں وصیت کو قبول کرنا۔ الوَصَاةُ جمع وَصًى و الوَصَايَة و الوِصَايَة: گھا باندھنے کی شاخ، وصیت۔ الوَصِيّ جمع اَوْصِيَاء: (مذکر و مؤنث کے لئے): وصیت کرنے والا، جس کو وصیت کی جائے۔ الوَصِيَّة جمع وَصِيّ: گھا باندھنے کی شاخ ـــ جمع وَصَايَا الايصاء کا اسم: وصیت۔ کہا جاتا ہے: هذه وصيتهُ: یہ اس کی وصیت ہے۔ وَصَايا اللّٰه: اللہ تعالیٰ کے احکام جو بندوں پر فرض ہوئے۔

۲۔ وَصَى يَصِي وَصْياً: ترقی کے بعد تنزلی کرنا۔

⊂ وَصَّى و اَوْصَى ه ب: کو کسی کے زیر نگرانی کرنا، کو کسی دیکھ بال میں دینا، کو کچھ کرنے کی ہدایت کرنا، حکم دینا، مشورہ دینا، سے کی سفارش کرنا، کسی کے کوئی بات ذہن نشین کرنا، کو کے کرنے کا حکم دینا، کے سپرد کوئی کام کرنا، کو کی ہدایت کرنا ـــ ب ه: کو پر واجب یا لازمی کرنا ـــ ه ب: کو کے لئے حکم دینا ـــ ب: فرمان یا حکم جاری کرنا کہ ـــ: وصیت کرنا ـــ ان: چاہنا کہ، وصیت کے ذریعے تعین کرنا، یا حکم کرنا کہ ...... ل ب: کو کی وصیت کرنا، کے لئے کچھ ورثے میں چھوڑنا، کو وصیت کے ذریعے کوئی چیز منتقل کرنا ـــ الي: کو وصی (وصیت کی تکمیل کرنے والا) مقرر کرنا۔ اَوْصَاهُ خيراً ب: ان نے اس کی دیکھ بھال کے لئے اس پر زور دیا۔ استوصى به خيراً: کو اپنا معاملہ بنانا، کے متعلق بہترین ارادے رکھنا۔ استوصى بالاجرِ خيراً: معتدل یا کم قیمت مقرر کرنا۔ وَصِيّ جمع اَوْصِيَاء: مختار عام، مجاز کارکن، جماعت ماہرین کا رکن، وصیت کی تکمیل کرنے والا، قانونی سرپرست، محافظ، نگران استاد، ناظم، مہتمم، متولی، شاہ کا قائم مقام، وصیت چھوڑنے والا، موکل، مالک، خدائی فرمان، زیر انتظام دینے والا، منتدب۔ وَصِيّ على العرش: شاہ کا قائم مقام، قائم مقام شہزادہ۔ وصية جمع وَصَايَا: ہدایت، حکم، سفارش، صلاح مشورہ رائے ہدایت، فہمائش، نصیحت، تاکید، وصیت، عہد، عہد نامہ، وصیت کے مطابق میلان، ورثہ، ترکہ، میراث۔ الوصايا العشر: شریعت موسوی میں دس خدائی احکام یا احکام عشرہ۔ وَصَاة و وَصَايَة: ہدایت، حکم، تعلیم۔ وِصَايَة: سرپرستی، عجائب گھر کی مہتمی کا عہدہ، اتالیق کا منصب اور کام، حفاظت، نگرانی، اتالیقی، وصیت پر عملدرآمد، انتداب، متولی یا مہتمم کا منصب۔ مجلس الوصاية: نیابت شاہی کی کونسل۔ تَوْصِيَة جمع توصيات و تَوَاصٍ: سفارش، ہدایت، تنبیہ، فہمائش، پند، وعظ، نصیحت، نیکی کی ترغیب، مشورہ، صلاح، تجویز، حکم، فرمان، تجارتی، آرڈر، آڑھت۔ بالتوصية: آڑھت پر، فرمائش کے مطابق۔ خطابُ توصية: سفارشی چٹھی۔ شِرْكَةُ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

توصیۃ: محدود شراکت لیبیتساء = توصیۃ: نیز
وصیت کی تکمیل کرنے والا کا تقرر مُوَصٍّ و مُوصٍ:
موکل، گاہک، پرنسپل، متندب، وصیت کرنے والا۔
شریک مُوصٍ: خاموش شراکت دار مُوصًی بہ:
فروخت شدہ، وصیت کردہ. ورثہ میں چھوڑا ہوا، میراث
کے طور پر دیا ہوا، ورثہ، ترکہ، میراث، حکم جاری شدہ،
حکم دیا ہوا، سفارش کیا ہوا مُوصًی علیہ: رجسٹرڈ
(خط، لفافہ وغیرہ) المُوصَی لہ: جس کے حق میں
وصیت کی جائے، ترکہ پانے والا، وارث۔
المُوصی الیہ: وصیت کی تکمیل کرنے والا۔

رضا: وَضَا يَتَوَضَّأُ وَضَاءَةً: سے خوب روئی حسن و
پاکیزگی میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا وَضُؤَ يَوْضُؤُ
وُضُوءًا و وَضَاءَةً الشيءُ: چیز کا پاکیزہ اور
خوبصورت ہونا تَوَضَّأَ بالماءِ: کو پانی
سے پاک کرنا اور خوب اچھی طرح دھونا واضَأَهُ:
پر خوب روئی اور پاکیزگی میں غالب آنا۔ کہا جاتا ہے:
واضَأْتُهُ فَوَضَأْتُهُ: اس نے اس کا خوبروئی اور
پاکیزگی میں مقابلہ کیا اور غالب آگیا تَوَضَّأَ
بالماءِ للصلاۃ: نماز کے لئے وضو کرنا۔ الغلامُ
والجاریۃُ: لڑکے اور لڑکی کا بالغ ہونا الوَضُوءُ:
وضو کرنے کا پانی الوَضِيءُ جمع وِضَاءٌ و
أَوْضِيَاءُ و الوَاضِيءُ جمع وُضَّاءٌ والوُضَّاءُ جمع
وُضَّاؤُونَ و وَضَاضِيّ: پاکیزہ، خوبصورت۔
الأَوْضَاءُ: زیادہ خوبصورت، زیادہ پاکیزہ المِيضَاةُ
والمِيضَاءَةُ: وہ جگہ جہاں وضو کیا جائے، لوٹا المُتَوَضَّأُ:
وضو کرنے کی جگہ، پاخانہ۔
تَوَضَّأَ: وضو کرنا وُضَّاءٌ: روشن، تاباں، چمکدار، چمکتا
ہوا، چمک دمک والا، تیز طبع، ذہین، نامی گرامی، تابندہ،
فروزاں، شعاع افشاں، نور افشاں۔ منور، شوخ رنگ
کا وَضَاءَۃٌ: پاکیزگی، صفائی ستھرائی، نفاست،
نفاست پسندی وَضُوءٌ: پاکیزگی، نفاست، وضوء۔
وَضُوءٌ: وضو کا پانی وَضِيءٌ جمع وِضَاءٌ: پاکیزہ
صاف ستھرا وَضُوء: وضوء مِيضَاۃٌ و مِيضَاءَۃٌ:
(وضوء کیلئے) چشمہ یا چلیچی۔

وضب: توضیب: انتظام، تیاری، (کان کنی کی
صنعت) محفوظ رکھنے کے لئے ٹھیک کرنا۔

وضح: وَضَحَ يَضِحُ ضِحَةً و ضِحَةً و وُضُوحًا و
تَوَضَّحَ و اِتَّضَحَ الامرُ او الکلامُ: حکم یا بات
واضح ہونا، ظاہر ہونا صفت اَضِحٌ و وَضَّاحٌ۔
وَضِحَ يَوْضَحُ وَضَحًا: برص کے داغوں والا ہونا۔
وَضَّحَ الامرَ: حکم واضح کرنا أَوْضَحَ الامرَ:
ظاہر و واضح ہونا الامرَ: کو واضح کرنا ت
الشَّجَّةُ فی الرأس: زخم کا سر کی ہڈی کو کھول دینا۔
فی رأسہ: کی کھوپڑی زخمی کرنا۔ کہا جاتا ہے من
این أَوْضَحْتَ: تم کہاں سے آئے ہو؟ اِسْتَوْضَحَ
اِسْتِیضَاحًا عن الامر: پر بحث کرنا ہُ الامرَ او
الکلامَ: سے حکم یا بات کی وضاحت کرانا، سے کی
وضاحت چاہنا الشیءَ و عن الشیءِ: کو
آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا الشمسَ: سورج کو
نگاہ تنگ کر کے دیکھنا الوَاضِحُ (فا): ظاہر، نمایاں۔
من الابل: سفید اونٹ واضحُ الحسب:
بے داغ حسب والا الوَاضِحَۃُ جمع وَاضِحَات
و أَوَاضِح: واضح کا مونث: ہنسی میں ظاہر ہونے والے
دانت المُوضَح (مص): کھرا درہم (کہا جاتا
ہے درہمٌ وَضَحٌ: کھرے درہم (اس لفظ کی نہ تو
مونث آتی ہے نہ تثنیہ اور نہ ہی جمع) جمع أَوْضَاح:
روشنی، صبح کی سفیدی۔ (کہا جاتا ہے جاءَ فی
وضحِ الصبح: وہ صبح کی سفیدی یا روشنی کے وقت
آیا۔) چاندنی، گھوڑے کی پیشانی یا ٹانگوں کی سفیدی،
بڑھاپے کی سفیدی، برص کی سفیدی، دودھ، چاندی کا
زیور، پازیب، چھوٹی چھوٹی گھاس وضحُ الطریق:
شاہراہ القدم: پاؤں کے تلوے کی سفیدی۔
اوضاحٌ من الناس: مختلف قبیلوں کی جماعتیں (اس
کا واحد نہیں آتا) الوَضَحَۃُ (ح): گدھی الوَضَّاح:
سفید فام، خوبرو، بہت مسکرانے والا، دن المنسب
الوَضَّاح: پاک نسب بکرُ الوَضَّاح: صبح کی
نماز المُوضِحَۃُ جمع وَضَائِح: مویشی۔
المُتَوَضِّح (فا): ظاہر ہونے والا، شاہراہ پر چلنے
والا من الابل: ہلکے سفید رنگ کا اونٹ۔

وضح: وَضَحَ يَضِحُ وُضُوحًا: صاف، واضح، ظاہر، آشکار،
بدیہی یا بین ہونا یا ہوجانا، نظر آنا، لگنا، معلوم ہونا، دکھائی
دینا وَضَّحَ و أَوْضَحَ ہُ: کو واضح کرنا، ظاہر کرنا، کی
تشریح کرنا، توجیہ کرنا، کا مطلب بتانا، کو تفصیل سے
سمجھانا، کی توضیح کرنا، کو مثالیں دے کر سمجھانا، کو پیش
کرنا، کو واضح کرنا، آشکار کرنا، کو دکھانا، کو بتانا، کا اشارہ
کرنا، پر دلالت کرنا، کی صراحت کرنا، کو معین کرنا، سے
عبارت ہونا، کا اظہار کرنا تَوَضَّحَ: بمعنی وَضَحَ
نیز تَوَضَّحَ: ظاہر کیا جانا، صاف ہونا، واضح ہونا،
دکھایا جانا، بتایا جانا، صاف واضح اور ظاہر ہونا۔
اِتَّضَحَ: بمعنی وَضَحَ و تَوَضَّحَ نیز اِتَّضَحَ
من: سے صاف نتیجہ نکلنا، سے وضاحت ہونا اِسْتَوْضَحَ
طلب کرنا ہ/عن: کا جائزہ لینا، کی تفتیش کرنا، کا
گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا، کی تحقیقات کرنا، کی
علمی تحقیقات کرنا ہ: کو واضح طور پر سمجھنا چاہنا۔
وَضَح جمع أَوْضَاح: آب و تاب، روشنی، درخشانی،
تابندگی، تنویر، چمک دمک۔ فی وضحِ النہار: دن
دہاڑے۔ وَضَّاح: چمکدار، صاف، درخشاں، تابندہ،
روشن، چمکیلا، تاباں، تابندہ، روشنی دینے والا۔
وُضُوح: صفائی، وضاحت، سادگی، صراحت، نمود اری،
ظہور، اظہار بِوضوحٍ: صریحاً، واضح طور پر،
صراحت سے، وضاحت سے، بیّن طور پر۔ أَوْضَح
واضح تر۔ اِیضَاحِی: واضح کرنے والا، تشریحی،
توضیحی اِستیضاح جمع استیضاحات: وضاحت
کرنے کی درخواست، پوچھنا، دریافت کرنا، تحقیقات،
رسمی سوال، مقننہ میں سوال (interpellation)
واضح: صاف، واضح، روشن، درخشندہ، بیّن، صریح،
ظاہر، آشکار، مرئی، آشکارا، عیاں، نمایاں، کھلا، نمائشی،
نمائش کے قابل، دکھانے کا واضح بذاتہ:
صاف، ظاہر، بدیہی، خود تشریحی من الواضح أن:
یہ واضح ہے کہ الامر واضحٌ وضوحَ الشمس فی
رابعۃ: معاملہ دن کی روشنی کی طرح واضح ہے۔
مُتَّضِح: صاف، واضح، ظاہر، نمایاں، صریح، بیّن،
یقینی، حتمی، عیاں، آشکارا، کھلا ہوا۔

وضخ: وَضَخَ يَضِخُ وَضْخًا الدلوَ: پانی سے آدھا
ڈول بھرنا واضخ وِضَاخًا و مُوَاضَخَۃً: سے
پانی کھینچنے یا دوڑنے یا چلنے میں مقابلہ کرنا أَوْضَخَ
الدلوَ: ڈول کو پانی سے آدھا بھرنا، ڈول سے تھوڑا پانی
کھینچنا ت البئرُ: کنویں کے پانی کا کم ہونا۔
تَوَاضَخَ القومُ: پانی بھرنے، دوڑنے یا چلنے میں
مقابلہ کرنا الوَضُوخ: آدھے ڈول تک بھرا ہوا
پانی، پانی کھینچنے کی چیز۔

وضر: وَضِرَ يَوْضَرُ وَضَرًا: میلا ہونا، چکنا ہونا۔ صفت
مذکر وَضِر صفت مونث: وَضِرَۃ و وَضْرَی۔
کہا جاتا ہے فلانٌ وَضِرُ الاخلاقِ و فی اخلاقہ
وَضَرٌ: فلاں گندے اخلاق والا ہے وَضَّرَہُ: کو میلا
کچیلا کرنا۔ کہا جاتا ہے کان نقیَّ العِرض فوَضَّرَہُ
بالدناءۃ: وہ پاکیزہ شہرت والا تھا پھر اس نے اسے
کمینگی سے خراب کر دیا الوَضَر (مص) جمع
أَوْضَار: چکناہٹ کا میلا پن، پیالہ کا دھوون، پیالے
میں کھانے کا اثر الوَضْرَی: سرین۔

وضع: وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا ہُ: کو کمینہ بنانا، ذلیل کرنا۔
عُنُقَہ: کی گردن پر مارنا الحدیثَ: بات

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

گھڑنا۔ ــــ الکتابَ: کتاب تصنیف کرنا۔ ــــ السلاحَ فی العدوّ دشمن سے لڑنا۔ ــــ یَدَہٗ عن فلانٍ: سے رکنا۔ ــــ الجنایة عن فلان: سے سنگین الزام خارج کرنا۔ ــــ عصاہٗ: چلنے سے رکنا، قیام کرنا۔ ــــ ت المرأة خمارَھا: عورت کا بے اوڑھنی ہونا صفت: واضع: (یعنی بے اوڑھنی عورت)۔ ــــ الشیءَ بین یدیہ: چیز کو سامنے چھوڑ دینا۔ ــــ یَدَہٗ فی الطعام: کھانا کھانا۔ ــــ الجزیةَ او الحربَ: جزیہ یا جنگ ساقط کرنا۔ ــــ وَضْعًا و مَوْضَعًا و مَوْضِعًا و مَوْضُوعًا الشیءَ: کو نیچے رکھنا، رکھنا، کو کسی جگہ قائم کرنا، استوار کرنا۔ ــــ الشیءَ من یدِہِ: کو ہاتھ سے ڈال دینا۔ ــــ من فلان: کا مرتبہ گھٹانا۔ ــــ عن غریمہ: کو قرض سے کچھ چھوڑنا۔ ــــ وَضْعًا و مَوْضُوعًا البعیرُ: اونٹ کا سر جھکا کر تیز چلنا۔ ــــ وَضْعًا و ضَعَةً و ضِعَةً و وُضُوعًا نفسَہٗ: خود کو ذلیل کرنا۔ ــــ وَضْعًا و وُضْعًا و تُضْعًا تِ المرأةُ حملَھا: جننا۔ صفت: وَاضِع۔ وَضِعَ یَوْضَعُ و وُضِعَ ضَعَةً و ضِعَةً و وَضِیْعَةً فی تجارتہ: اپنی تجارت میں نقصان اٹھانا۔ صفت مَوْضُوْعٌ فیھا۔ وَضُعَ یَوْضُعُ ضَعَةً و ضِعَةً و وَضَاعَةً: گھٹیا نسب والا ہونا، منہ بولا بیٹا ہونا، کمینہ و ذلیل ہونا، خسیس ہونا۔ وَضَّعَ الشیءَ: کو جوڑنا۔ ــــ الجبَّةَ: جبہ کو روئی بھر کر سینا۔ ــــ تِ النعامةُ بَیْضَھَا: شترمرغ کا انڈوں کو تہہ بتہہ کرنا۔ ــــ الرجُلَ: کو ذلیل کرنا۔ وَاضَعَ وِضاعًا و مُوَاضَعَةً ہٗ: سے شرط لگانا۔ ــــ ہٗ فی الامر: کی کسی امر میں موافقت کرنا۔ ــــ ہٗ البیعَ: بیع چھوڑنا۔ ــــ ہُ الرھان: کی شرط باطل کرنا۔ کہا جاتا ہے: ھلُمَّ اُوَاضِعْکَ الرأیَ: آؤ! ہم ایک دوسرے کو اپنی اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اَوْضَعَ البعیرُ: اونٹ کا تیز چلنا۔ ــــ البعیرَ: اونٹ کو تیز چلانا۔ ــــ فی تجارتہ: اپنی تجارت میں نقصان اٹھانا۔ تَوَاضَعَ: ذلیل وعاجز ہونا، انکساری کرنا۔ ــــ تِ الارضُ: زمین کا پست ہونا۔ ــــ القومُ علی کذا: پر لوگوں کا متفق ہونا۔ ــــ مابیننا: دور ہونا۔ اِتَّضَعَ: ذلیل وعاجز ہونا، لئیم اور گھٹیا نسب والا ہونا۔ ــــ البعیرَ راکبُہٗ: سوار کا اونٹ کی گردن کو سوار ہونے کے لئے جھکانا۔ اِسْتَوْضَعَ اِسْتِیضاعًا منہ: کو گھٹانے کے لئے کہنا۔ ــــ ہٗ فی دَیْنِہٖ: سے قرض میں نرمی چاہنا۔ الوَاضِع (فا): امرأة وَاضِعٌ: بے اوڑھنی کے عورت۔ ناقةٌ واضِعٌ: تلخ وترش پودوں میں رہ کر چرنے والی اونٹنی۔ الوَضع (مص) جمع

اوضاع: جگہ۔ الوَضْعَة و الوِضْعَة: جگہ، مرکز۔ الوَضِیع: خسیس، کمینہ، امانت۔ کہا جاتا ہے: وضعتُ عندہ وضیعاً: میں نے اس کے پاس امانت رکھی۔ الوَضِیْعَة جمع وَضَائِع: قیمت کی کمی، امانت، ترش نباتات، خراج یا عشر جو بادشاہ وصول کرتا ہے، منہ بولا بیٹا، فوج کا دستہ جو کسی صوبہ میں رکھا جائے، کتاب جس میں حکمت کی باتیں لکھی جائیں، کٹے ہوئے گیہوں اور گھی سے تیار کردہ کھانا۔ الوَضَائِع: مسافروں کا سامان۔ التَوْضِیع (مص): کہا جاتا ہے، فی کلامِہٖ توضیع: اس کے کلام میں زنانہ پن ہے۔ المَوْضَع و المَوضِع (مصدر) جمع مواضِع: رکھنے کی جگہ۔ المَوْضِعَة: مَوْضِع کا ہم معنی۔ کہا جاتا ہے: لَہٗ فی قلبی مَوْضِعةٌ و مَوْقِعَةٌ: میرے دل میں اس کی محبت ہے۔ المُوَضَّع (مفع): ٹوٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔ المَوضُوع جمع مَوَاضِع و مَوْضُوعات (مص): موضوعُ العلم: وہ چیز جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے جیسے جسمِ انسانی علم طب کے لئے۔ موضوعُ الکلام: وہ عنوانِ کلام جس پر گفتگو چل رہی ہو۔ الاحادیث الموضوعة: گھڑی ہوئی باتیں۔ الموضوعة: مفروضہ (جیومیٹری)

○ وَضَعَ یَضَعُ وَضْعًا ہ: کو رکھنا، کو نیچے رکھنا، نصب کرنا، کھڑا کرنا۔ ــــ ہ فی: کو میں لگانا، کو سے منسلک کرنا، کو پر چسپاں کرنا، کو سے چپکانا، کو میں رکھنا۔ ــــ ہ علی: کو پر عائد کرنا۔ ــــ ہ عن: کو سے لینا۔ ــــ عن: کو بوجھ سے چھٹکارا دلانا۔ ــــ عن: گھوڑے سے زین اتارنا۔ ــــ ہ: بچہ پیدا کرنا، بچہ جننا۔ ــــ ہ: کوئی چیز ایجاد کرنا، بنانا، کی بنیاد رکھنا، کو قائم کرنا، شروع کرنا۔ ــــ ہ: کو لکھنا، (کتاب) تصنیف کرنا، کچھ تخلیق کرنا، کوئی نیا لفظ وغیرہ گھڑنا، یا وضع کرنا۔ ــــ ہ/من: کو ذلیل کرنا، کی تحقیر کرنا، کو بدنام کرنا، بے وقار کرنا، پر عیب لگانا، کے نام کو بٹا لگانا، کی ہتک عزت کرنا۔ ــــ وضوعاً و ضِعَةً نفسَہٗ: خود کو ذلیل کرنا۔ وَضُعَ یَوْضُعُ وَضَاعَةً: کمینہ ہونا، نیچ ہونا۔ وَضَعَ اساساً: بنیاد رکھنا۔ وضع ثِقَتَہٗ فی: پر اعتماد کرنا۔ وَضَعَہٗ جانباً او علی جانبٍ: کو ایک طرف رکھنا۔ وَضَعَہٗ فی جیبِہٖ: کو اپنی جیب میں رکھنا۔ وَضَعَ حداً لِ: کو ختم کرنا۔ وضع ختماً علی: پر مہر لگانا۔ وضع السلاحَ: ہتھیار ڈالنا۔ وُضِعتِ السلسلةُ فی عنقِہٖ: گردن کے پاس چکی کا پاٹ رکھنا، سخت معذور ہونا۔ وضع مشروعاً: منصوبہ بنانا۔

وضع من قدرہ: کی قدر و قیمت گھٹانا۔ وضع تقریراً: رپورٹ لکھنا یا بنانا۔ وضع اقتراحاتٍ: تجاویز بنانا، مرتب کرنا۔ وضعہ فی مقدمة اھتمامہ: کو ترجیح دینا۔ وضع لفظًا لِ: کے لئے لفظ گھڑنا یا وضع کرنا۔ وضع للفظ معنی خاصاً بہ: کو کوئی خاص معنی دینا۔ وضعہ نُصبَ عَیْنِہ: کو واضح کرنا، سے کا اظہار کرنا۔ وضع نَظَّارَتَہٗ علی عینیہِ: عینک لگانا۔ وضع نُظُماً: قواعد قائم کرنا۔ وَضَعَہ علی حِدَةٍ: کو الگ کرنا، چن لینا۔ وضعہ موضعَہٗ: کو کی جگہ رکھنا۔ وضعہ موضعَ التنفیذ: کو نافذ کرنا، عمل میں لانا، عملی جامہ پہنانا، کو موثر یا کارگر بنانا۔ وضعہ موضعَ الشك: پر شک کرنا، کے متعلق شک ظاہر کرنا۔ وضعہ موضعَ العمل: کو عمل میں لانا۔ وضع الفکرة موضعَ الفعلِ: خیال کو عمل کا جامہ پہنانا۔ وضع نفسہ موضع فلانٍ: اپنے کو کسی کی جگہ رکھنا۔ وضعہ فی غیر موضعہ: کو غلط جگہ رکھنا، کو کسی جگہ رکھ کر بھول جانا۔ وضع یَدَہٗ علی: کو قبضہ میں لینا۔ وضع یدہ علی الف اسیر: ایک ہزار کو قیدی بانا۔ وضع یدہ علی ضمیرہ: اپنے دل پر ہاتھ رکھنا۔ وضعہ من یدہ: کو ایک طرف رکھنا، کو بے پرواہی سے ایک طرف پھینک دینا۔ وضعہ تحت یدہ: کو کسی کے تسلط میں دینا۔ اَوْضَعَ: جلدی کرنا۔ ــــ فی: میں سرگرم حصہ لینا، میں عملی حصہ لینا۔ اُوضِعَ فی: میں نقصان اٹھانا۔ تَوَاضَعَ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا، عاجزی اور شرافت سے پیش آنا۔ ــــ علی: پر اتفاق کرنا۔ اِتَّضَعَ: خود کو ذلیل کرنا۔ ضَعَة و ضِعَة: عاجزی، انکساری، گراوٹ، سفلہ پن، تنگی، قلت کمی، بے کسی، بے نوائی محتاجی، گھٹیا پن۔ وضع جمع اوضاع: ہتھیار ڈالنا، نیچے رکھنا، رکھنا، لگانا، جڑنا، مقرر کرنا، لگانا، رکھنا، لکھنا، ریکارڈ کرنا، دستاویز وغیرہ مرتب کرنا، (مطبوعہ تصنیف کی) ترتیب، (کتاب) لکھنا، تصنیف کرنا، تخلیق، ایجاد (لفظ) وضع کرنا، من گھڑت بات۔ (معاہدہ) طے کرنا، زائدگی، جننا، ولادت، قاعدہ، قانون، خاکہ، مسودہ، رویہ، وضع، وطیرہ، طریقہ، چال، انداز، چلنے کا ڈھب، بناوٹی انداز، انداز نشست وغیرہ، پوز (کیمرہ کے سامنے)، درجہ مقام، حالت، موقف، پوزیشن، محل وقوع، موضع، صورت حال، بنیاد، استقرار، تذلیل، شرمساری، جمع اوضاع: حالات، حال، حالت، صورت حال، قوانین، قواعد، اصول، انداز، اسلوب، سماجی رسوم، معاشرتی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

روایات، دستور، رواج، ریتیں، رسمیں، رواجی قواعد۔ وَضعًا و قولاً: قولاً وعملاً۔ الوضع الحالی: موجودہ صورت حال۔ الآم الوضع: دردِزہ۔ وَضْعَة و وِضعة صورت حال، پوزیشن موقف مقام۔ وَضْعی: صورت حال یا موقف کے متعلق، قطعی، مثبت، ایجابی، ٹھوس، انسان کا بنایا ہوا، تقلید پر مبنی، وجوبی، رسمی، تقلیدی۔ قانون وضعی: ٹھوس قانون۔ القِیمُ الوضعیة: اعشاریے۔ وضعیة: صورت حال، فلسفہ وجوبیت جس میں صرف ان چیزوں کو مانا جاتا ہے جن کا وجود مشاہدہ میں آسکے اور اس کا عینی ثبوت ہو۔ وضاعة: عاجزی انکسار، گراوٹ، پستی، سفلہ پن۔ وضیع: فروتن، خاکسار، منکسر المزاج، کمینہ، سفلہ، عامیانہ، بازاری، ادنی طبقہ کا، گھٹیا، کم رتبہ۔ الطبقة الوضعیة: سب سے نچلا طبقہ۔ الوضیع و الرفیع: ادنی واعلی۔ وضیعة: امانت، جو چیز رکھی گئی ہو، جو چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو، ودیعت، زیرِ تولیت جائداد، حوالگی، بینک میں ایک مدت کے لئے رکھی ہوئی رقم، نقصان کے ساتھ دوبارہ فروخت، قیمت میں کمی، منہائی، کٹوتی۔ مَوضِع جمع مَواضِع: جگہ، موقع، کتاب کا کوئی حصہ یا عبارت، پوزیشن، صورت حال، رتبہ۔ فی موضعه: صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر، بروقت، برمحل، برموقعہ، مناسب وقت پر، بہت موقع کا۔ فی غیر موضعه: غلط جگہ پر۔ فی موضع الحال: موجودہ حالت میں۔ کان موضع حَکَاوَةٍ: وہ استقبالیہ میں جیتی جاگتی مثال تھا۔ موضع الاعجاب: تعریف کی چیز۔ موضع الحنان: ہمدردی کی چیز۔ مَوضِعی: مقامی۔ واضع الید: قابض۔ موضوع جمع موضوعات و مواضیع: موضوع، مرکزی خیال، سوال، مسئلہ، مضمون، بدیہیات یا اولیات میں سے، بدیہی، اصول موضوعہ۔ فهرس الموضوعات: اشاریہ، مشمولات کی فہرست۔ ادرك الموضوعَ: اس نے نقطہ پالیا۔ غیر ذی موضوع: موضوع سے غیر متعلق، بے محل، بے موقع، بے وقت۔ موضوعی: معروضی، واقعیت پسندانہ، موضوع سے متعلق۔ مَوضُوعِیَة: واقعیت پسندی، یہ نظریہ کہ خارجی اشیاء کا علم مقدم اور حقیقی ہے۔ مَوَاضعات: مماثل یا مشابہ (الفاظ) گھڑنے یا وضع کرنے کے عمل۔ مُتَواضِع: منکسر المزاج، شریف، سیدھا سادہ، سادہ، چھوٹا، غیر اہم۔

وضف: وَضَفَ یَضِفُ وَضْفًا و أَوضَفَ البعیرُ: اونٹ کا تیز چلنا۔

وضم: وَضَمَ یَضِمُ وَضْماً اللحمَ: گوشت کو تختہ پر رکھنا۔ — وُضُوماً القومُ: جمع ہونا، قریب قریب ہونا۔ — بنو فلانٍ علی بنی فلان: فلاں کی اولاد کا فلاں کی اولاد کے پاس آنا۔ اَوْضَمَ إیضاماً اللحمَ و لِلحم: گوشت کو تختہ پر رکھنا۔ — الشجرَ: درختوں کو ایک دوسرے پر رکھنا۔ اِستَوْضَمَ هُ: پر ظلم کرنا۔ الوَضَم جمع أَوْضام و اَوْضِمَة: قصاب کا تختہ جس پر وہ گوشت کاٹتا ہے (کہا جاتا ہے: ترکهُم لحماً علی وَضَم: اس نے ان کو مصیبتوں میں ڈال کر ذلیل اور دکھی کر دیا) گوشت خشک کرنے کا پھٹا یا چٹائی، دسترخوان۔ الوَضْمَة: تقریباً دوسو انسانوں کی جماعت۔ الوَضِیمَة: تقریباً دوسو انسانوں کی جماعت، میت کا کھانا۔ المِیْضَمة جمع مَوَاضِم: گوشت کا تختہ رکھنے کی جگہ۔

۲۔ الوَضِم: سابہ اور بنصر کے درمیان کا حصہ۔

ٹ وَضَم جمع اَوْضَام: دوکان میں گوشت رکھنے کا تختہ یا میز، گوشت کا تختہ، قصائی کا تختہ۔

وضن: وَضَنَ یَضِنُ وَضْناً الشیءَ: چیز کو تہ بہ تہ رکھنا، ایک کو دوسرے پر موڑنا، دوگنا کرنا۔ — النِسْعَ: گھوڑے کی زین کے تنگ کا تسمہ بننا۔ تَوَضَّنَ لهُ: کے لئے ذلیل وعاجز ہونا، کا پیارا بننا۔ اِتَّضَنَ به: سے متصل ہونا۔ الوَضِین جمع وُضُن: تہ بہ تہ کیا ہوا، چوڑا تنگ جو تسموں یا بالوں سے بنا گیا ہو۔ کہا گیا کہ وضین کا ہودج کے لئے وہی مقام ہے جو پیٹی کا زین کے لئے ہے۔ المَوضُونَة: باریک بنی ہوئی زرہ یا جواہر سے بنی ہوئی زرہ۔ المِیْضَنَة جمع مَوَاضِن: کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا یا تھیلا۔ المِیْضانَة جمع مَوَاضِین: ٹوکرا۔

وطّ: وَطَّ یَوُطُّ وَطّاً الوطواطُ: چمگادڑ کا آواز نکالنا۔ — المحملُ: کجاوہ کا چرانا۔

۲۔ وَطْوَطَ: کمزور ہونا، جلدی جلدی بولنا۔ الوَطْوَاط: کمزور عقل اور رائے والا آدمی، جلدی جلدی بولنے والا۔ — جمع وَطَاوِط و وَطاوِیط (ح): چمگادڑ۔ (ح): پہاڑی ابابیل۔ الوَطْوَاطَة: جلدی جلدی بولنے والی، چلانے والی۔

وطأ: وَطِئَ یَطَأُ وَطْأً الشیءَ برجْله: کو پاؤں کے نیچے روندنا۔ — الفرسَ: گھوڑے پر سوار ہونا۔ — ارضَ عدوّه: دشمن کے ملک میں داخل ہونا۔ — الشیءَ: کو تیار کرنا، آسان کرنا۔ وَطُؤَ یَوْطُؤُ وَطَاءَةً و وُطوءَةً الموضعُ: جگہ کا روندا ہوا ہموار ہونا۔ تَوْطِئَةً الشیءَ برجله: کو پاؤں سے روندنا۔ — الفراشَ: بچھونا نرم کرنا۔ — الامرَ: کام کو درست کرنا، ہموار کرنا۔ — الموضعَ: جگہ کو نرم وہموار کرنا۔ — الشعرَ و فیه: لفظاً ومعناً شعر کا قافیہ دہرانا۔ وَاطَأَ مُوَاطأةً فلاناً علی الأمر: پر کی موافقت کرنا۔ — فی الشعر: لفظاً ومعناً شعر کا قافیہ دہرانا۔ أَوْطَأَ إیطاءً فلاناً الارضَ و بالارض: سے زمین کو کچلوانا، روندوانا۔ — هُ فرسَهُ: کو گھوڑے پر سوار کرانا۔ — هُ علی الأمر: سے پر موافقت کرنا۔ — الشِعْرَ و فی الشعر: لفظاً ومعناً شعر کا قافیہ دہرانا۔ تَوَطَّأَ فلاناً برجله: کو پاؤں سے روندنا، کچلنا۔ — الرجُلَ علی الأمر: سے پر متفق ہونا۔ — ه علی الأمر: سے پر موافقت کرنا۔ تَوَاطَأَ القومُ علی الأمر: پر متفق ہونا۔ اِتَّطَأَ اِتِّطاءً و اِیتَطَأَ اِیتِطاءً الشیءُ: آسان ہونا، تیار ہونا۔ — الأَمرُ: کام کا ٹھیک ہونا اور انتہا تک پہنچنا۔ اِستَوْطَأَ الشیءَ: کو نرم وروندا ہوا پانا۔ الوَاطِئَة: گری ہوئی کھجوریں۔ — الوَطَأَة: راستہ میں گزرنے والے لوگ۔ الطَّأَةُ و الطِئَة: سہولت، نرمی، جگہ کی نرمی اور روندی ہوئی ہونا۔ الوَطْءُ (مص) و الوَطاء: پست وہموار زمین۔ الوَطْأَة: وَطَأَ کا اسم مرة۔ قدم کی جگہ دباؤ، سخت گرفت۔ الوِطاء و الوَطَاء: فرش۔ الوَطَائَة و الوُطُوئَة (مص): سہولت، نرمی۔ کہا جاتا ہے: انا اُحِبُّ وَطَاءَةَ العیش: میں زندگی کی نرمی چاہتا ہوں۔ الوَطِیءُ: پست نرم، آسان، روندا ہوا۔ الوَطِیئَة: وطیء کا مونث، گٹھلی نکال کر دودھ میں گوندھی ہوئی کھجور، نرم عصیدہ (آٹے گھی سے تیار کردہ کھانا) شکر ملا پنیر۔ المَوْطَأ و المَوْطِئ: قدم کی جگہ۔ المُوَطَّأ مفع: کہا جاتا ہے: رجلٌ مُوَطَّأ الاکنافِ: شریف، نرم اخلاق والا، مہمان نواز۔ هو مُوَطَّأ العقب: بہت سے متبعین رکھنے والا۔ المِیْطأ: پست ونرم زمین۔

ٹ وَطِئَ یَطَأُ وَطْأً ه: کو پاؤں تلے روندنا، پر چلنا، قدم رکھنا، پر قدم جمانا، (گھوڑے) پر سوار ہونا، کو پاؤں تلے کچلنا۔ — ها: سے مباشرت کرنا، مجامعت کرنا۔ وَطَّأَ ه: کو ہموار کرنا، نرم کرنا، تیار کرنا۔ — ه ل: کو کے لئے آرام دہ بنانا (خصوصاً نشست، بستر وغیرہ)۔ — ه: کو کم کرنا، کاٹ ڈالنا، پر دباؤ ڈالنا، کو نیچا کرنا۔ وَطَّأَ صوتَهُ: آواز نیچی کرنا۔ وَاطَأَه علی: سے کسی بات پر متفق ہونا۔ اَوْطَأَه ه: سے پر قدم رکھوانا، سے کو کچلوانا، روندوانا۔ وَاطَأَ علی: پر متفق ہونا، پر موافقت کرنا، تعاون کرنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کام کرنا، اکٹھے یا ایک ساتھ کام کرنا، ایک دوسرے کے ہاتھ میں کھیلنا، میں ملی بھگت سے کام کرنا۔ وِطْءٌ و وِطَاءٌ: پست زمین، نشیب۔ وَطْأَةٌ: دباؤ، استبداد، جبر، زبردستی، مجبوری، قوت، طاقت، شدت، تشدد، سختی۔ شَدِيدُ الوطأة على: پرظالم، پرمہلک اثر والا، پرسخت مضر نتائج کا حامل۔ اشتدت وطأة الشيء: سنگین ہونا، تکلیف دہ ہونا، صبر آزما ہونا، تھکا دینے والا ہونا۔ لاشتدادِ وطأة المرض: بیماری کی شدت کی وجہ سے۔ وَطِى: نیچا، سپاٹ، ہموار۔ أوْطأ: پست تر، فروتر، کمتر۔ مَوْطأ و مَوطى جمع مَوَاطِى: قدم رکھنے کی جگہ، پاؤں کا سہارا، بنیاد، نقش پا، نقش قدم، پاؤں کا نشان، کھوج، قدمچہ۔ ضيق موطئ الاقدام: ایک فٹ زمین۔ موطئ الأقدام: زمین۔ تَوطِئة: آغاز، روشناسی، تعارف، تیاری۔ لتوطئة: کی تیاری میں، کے مقصد سے۔ توطئة الصوت: آواز نیچی کرنا۔ مُواطأة: موافقت، خفیہ مفاہمت، چشم پوشی، اغماض، ملی بھگت۔ تَواطؤ: موافقت، خفیہ مفاہمت، چشم پوشی، اغماض، ملی بھگت۔ واطِى: نیچا (کپڑے وغیرہ سے دبائی ہوئی آواز) مغلوب، دھیمی، ہلکی، نرم (آواز)۔ الاراضى الواطئة: نشیبی ممالک (ہالینڈ، بلجیئم)۔

وطب: الوَطْب: بڑا پستان، سخت طبیعت والا۔ جمع أوْطب و وِطاب و جمع الجمع اوَاطِب: دودھ کی مشک۔ کہا جاتا ہے صَفِرَتْ وِطَابُهُ: وہ مرگیا یا قتل ہوگیا۔ الوَطْباء: بڑے پستان والی۔ مملوء الوطاب: بڑی حد تک کوئی چیز دیا گیا۔ خالى الوطاب: خالی ہاتھ۔

وطح: وَطَحَ يَطِحُ وَطْحا وَطِحَةً ہُ: کو ہاتھوں سے زور سے پیچھے ہٹانا، دھکا دینا۔ تَوَاطَحَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ شر و برائی کرنا یا لڑنا۔ ت الابل على الحوض: اونٹوں کا حوض پر بھیڑ کرنا۔ الوَطْح (منس): کھر یا چنگل میں لگی ہوئی مٹی وغیرہ۔

وطد: وَطَدَ يَطِدُ وَطْدا الشيءَ: کو مضبوط کرنا، پائیدار کرنا، بھاری کرنا۔ صفت مفعولی: وَطِيد و مَوطُود۔ — الارض: زمین کو کوٹنا تا کہ سخت ہو جائے۔ — الشيءَ اليه: کو اپنے سے ملانا۔ — له منزلة: کو کے لئے تیار کرنا۔ — ہ الى الارض: کو زمین کی طرف دبانا، جھکانا۔ — الشيءُ: ثابت و قائم رہنا، چلنا (ضد)۔ — الصخرَ على الغار: غار پر پتھر تہ رکھنا۔ وَطَّدَ الشيءَ: کو مضبوط کرنا، پائیدار کرنا، بھاری کرنا۔ تَوَطَّدَ: مضبوط ہونا، ثابت ہونا۔ کہا جاتا ہے وَطَّدَهُ فتوطَّدَ: اس نے اسے مضبوط کیا تو وہ مضبوط ہوگیا۔ توطدت له عندهم منزلة: ان کے ہاں اس کی منزلت پائیدار ہوگئی۔ الواطِد و الوَطِيد و المَوطُود: ثابت، مضبوط پائیدار۔ (جمع الأوطاد): پہاڑ۔ الوَطِيدَة: وطائد کا واحد جن کا معنی ہے: عمارت کی بنیادیں، ہانڈی کے چولہے کے پتھر۔ کہا جاتا ہے أنتَ من وطائد الحق: تو سچائی کا ستون ہے۔ لَهُ عندهُ وَطِيدة: اس کے نزدیک اس کا پائیدار مرتبہ ہے۔ المِيطَدَة: درمٹ۔ المتواطد: پائیدار، سخت، ایک دوسرے کے پیچھے۔

وطد يَطِدُ وَطْدا و وَطَدَ ہ: کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، مضبوط بنانا، جوڑنا، رشتہ اتحاد مضبوط کرنا، (زمین) کو بزور دبانا، کو ٹھونس ٹھونس کر بھرنا، کوٹنا، کی کوٹائی کرنا۔ — ہ ل: (راستہ) کو کے لئے ہموار کرنا، (زمین) کو کے لئے تیار کرنا۔ وطد ثقتهُ في: پر سختی سے بھروسہ کرنا، پر یقین کرنا، اعتماد کرنا۔ وطد العزمَ أن: کا عزم مصمم کرنا، کا پختہ فیصلہ کرنا۔ وطد عُرَى المحبة: دوستی کے بندھن مضبوط کرنا۔ وطد أقدامَهُ في: میں پاؤں رکھنے کی جگہ حاصل کرنا۔ وَطِيد: مضبوط، ٹھوس، سخت، غیر متزلزل۔ وطيدُ الأمل ب: کی قوی امید رکھنے والا، کا یقین رکھنے والا۔ مِيطَدَة: موگری، دھرمٹ، ٹھونکنے کوٹنے کی مشین۔ تَوطِيد السِلم: امن کی حفاظت کرنا اور اسے برقرار رکھنا۔ توطِيدُ سعر الفرنك: فرینک (سکہ) کا استحکام۔ مُوَطَّد: مضبوط، قوی، ٹھوس، سخت۔ مُوَطَّدُ الأركان: مضبوطی سے قائم، مضبوط بنیادوں پر منحصر۔

وطر: الوَطَر جمع أوطار: حاجت، مطلوب۔ کہا جاتا ہے قضى منه وَطَرَهُ و أوطارَهُ: اس نے اس سے اپنا مطلوب پالیا۔

وَطَر جمع أوطار: خواہش، مرضی، تمنا، حسرت، مقصد، مدعا، غرض، غایت، ارادہ، عزم۔

وطس: وَطَسَ يَطِسُ وَطْسا ہُ: کو بوٹ وغیرہ سے زور سے مارنا۔ — الشيءَ: کو توڑنا، کوٹنا۔ تَوَاطَسَ الموجُ: موجوں کا آپس میں ٹکرانا۔ — القومُ عليّ: قوم نے مجھ پر ہجوم کیا۔ الوَطَّاس: چرواہا۔ الوَطِيس جمع أوطِسَة و وُطُس: تنور، بھٹی، میدان جنگ۔ کہا جاتا ہے حَمِيَ الوَطِيسُ: لڑائی سخت ہوگئی، جنگ میں شدت آگئی۔ الوَطِيسَة: معاملہ کی سختی۔ حَمِيَ الوَطِيسُ: سخت لڑائی ہوئی۔ حَامِيُ الوطيس: سخت، خوفناک، اندوہناک (لڑائی)۔

وطش: ا وَطَشَ يَطِشُ وَطْشا ہُ: کو مارنا۔ — ہ عن فلان: کو سے دور کرنا، ہٹانا۔ وَطَشَ القومَ عنه: قوم کو کسی سے دور کرنا۔ کہا جاتا ہے ضربوہ فما وَطَشَ اليهم: لوگوں نے اس کو مارا مگر اس نے ان کی طرف ہاتھ تک نہیں اٹھایا اور نہ انہیں اپنے سے دور کیا۔

۲ وَطَشَ يَطِشُ وَطْشا الحديثَ او الخبرَ: بات یا خبر کا کچھ حصہ بیان کرنا۔ — الكلامَ: غیر واضح کلام کرنا۔ کہا جاتا ہے ما وطش لنا بشيءٍ: اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ وَطَشَ الحديثَ: بات کا کچھ حصہ بیان کرنا۔ — فيه: پر اثر کرنا۔ — لَهُ: کیلئے تقریر، رائے یا کام تیار کرنا۔ — ہ: کو تھوڑا دینا۔ کہا جاتا ہے سألوهُ فما وَطَشَ لهم بشيءٍ: انہوں نے اس سے سوال کیا مگر اس نے انہیں کچھ نہیں دیا۔

۳ وَطَشَ يَطِشُ وَطْشا ہ: کو مارنا، تھپڑ لگانا، طمانچہ مارنا، چپت رسید کرنا۔

وطف: ا وَطَفَ يَطِفُ وَطْفا: شکار وغیرہ کو بھگانا اور اس کا پیچھا کرنا۔

۲ وَطِفَ يَوْطَفُ وَطَفا: گھنی آبروؤں یا پلکوں والا ہونا۔ صفت أوْطَف مونث وَطْفاء جمع وُطْف۔ — المطرُ: بارش کا زور سے برسنا۔ الوَطَف مص: جب بادل لٹکے ہوئے ہوں تو اس وقت کہتے ہیں في السحابة وَطَفٌ۔ الوَطْفَة: تھوڑے بال۔ ظلام أوْطَفُ: سخت اندھیرا۔ سحابٌ أوْطَف: زمین کے نزدیک آیا ہوا بادل۔ عام أوطَف: فراخ سالی۔ عيش أوطف: خوشحالی۔ سحابة وَطْفاء: پانی سے بھرا بادل۔

أوْطَف مونث وَطْفاء: گھنی آبروؤں والا، گھنی بھوؤں والا۔ الوَطْفاء: پانی بھرا نیچا بادل۔

وطق: الوِطاق جمع وِطاقات: خیمہ (ترکی لفظ)۔

وطم: وَطَمَ يَطِمُ وَطْماً ہُ: کو روندنا۔ — السترَ: پردہ لٹکانا۔ وَطِمَ يَوْطَمُ وَطْماً و وُطِمَ الرجُلُ: کا بول و براز رک جانا۔

وطن: وَطَنَ يَطِنُ وَطْنا بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ وَطَّنَ نفسَهُ على الأمرِ وللأمرِ: کسی کام پر یا اس کے لئے خود کو آمادہ کرنا یا مائل کرنا۔ — البلدَ: کسی شہر کو اپنا وطن بنانا۔ واطَنَهُ على الأمر: کے ساتھ کسی کام کو کرنے کی ٹھاننا۔ أوْطَنَ إيطانا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ — واتَّطَنَ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

واستوطَنَ البلدَ: کسی شہر کو اپنا وطن بنانا۔ توطَّنَت نفسُہٗ علی کذا: پر آمادہ ہو جانا۔ ـــ البلدَ: کسی شہر کو اپنا وطن بنانا۔ الوَطَن جمع اَوطان: سکونت کی جگہ خواہ وہ جائے پیدائش ہو یا نہ ہو، وطن، مویشی باندھنے کی جگہ۔ المَوطِن جمع مَوَاطِن: وطن، لڑائی کا میدان۔ المُوَاطِن: ہم وطن۔ المِیطان: وہ جگہ جہاں سے گھڑ دوڑ میں گھوڑے چھوڑے جاتے ہیں، انتہا۔

ج وَطَنَ یَطِنُ وَطْنًا ب: میں رہنا، سکونت کرنا، اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ وَطَّنَ ہ: کسی جگہ کو رہائش کے لئے چننا، کسی جگہ میں آباد ہونا، کسی جگہ کو رہائش گاہ بنانا۔ وَطَّنَ نفسَہٗ علی: کا عادی ہونا، سے ہم آہنگ ہونا، کے موافق یا مطابق بننا، پر راضی ہو جانا، کو برداشت کرنا، کے لئے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا، کا مصمم ارادہ کرنا، کو کرنا، جی میں ٹھان لینا۔ تَوَطَّنَ ہ / ب: میں رہنے لگنا، میں آباد ہونا۔ تَوَطَّنَتْ نفسُہٗ علی بمعنی وَطَّنَ نفسَہٗ علی۔ استوطن ہ: کو رہائش کے لئے منتخب کرنا، (ملک) میں آباد ہونا، کو وطن بنانا، میں رہائش اختیار کرنا، میں مستقل طور پر رہنا، میں جڑ پکڑنا، شہریت حاصل کرنا، کا خوگر ہونا، کو کی آب و ہوا کا راس آ جانا۔ وَطَن جمع اَوطان: وطن، اپنا وطن، آبائی وطن، گھر۔ اھلُ وطنہ: کے ہم وطن، برادرِ وطن۔ حبُّ الوطن: حب الوطنی۔ شائع الوطن: جہاں گشت، پردیسی، آزاد خیال، وسیع المشرب۔ وَطَنی: وطن کا، مرز بوم کا، دیسی، ملکی، گھریلو، خانگی، وطن پرست، محبِ وطن، قومی، قوم پرور، قوم پرست (جمع) قوم پرست، قومی، آزادی کی تحریک کا شیدائی وطن پرست، محبِ وطن۔ مصنوعاتٌ وطنیۃ: گھریلو مصنوعات، ملکی مصنوعات۔ وَطَنیۃ: قوم پرستی، وطن پرستی، قومی آزادی کی تحریک سے ہمدردی، قومی جذبہ، حب الوطنی۔ مَوطِن جمع مَوَاطِن: گھر، قیام گاہ، سکونت، جائے بود و باش، وطن، اصلی علاقہ، ارض وطن، سرزمین وطن، مستقل رہائش کا شہر، پیدائشی ملک، اپنا ملک، آبائی ملک، جگہ، علاقہ، مقام، ضلع، حلقہ، خطہ، صحیح جگہ، صحیح وقت۔ موطنُ الضُعف: نرم جگہ، دکھتی جگہ، کمزور جگہ، کمزوری۔ وضع یدَہٗ علی موطنِ العلّۃ: کھلی یا دکھتی جگہ پر انگلی رکھنا یا دکھتی جگہ کو چھونا۔ المَوطن الوضیع: سب سے نچلا نقطہ، کم مارک، تہ، پیندا، بنیاد، بنیادی حصہ۔ مُوَاطِن: ہم وطن، ہم شہر، برادرِ وطن۔ مواطن عالمی: ساری دنیا کا شہری۔ مُتَوَطِّن: دیسی، ملکی، مقیم، باشندہ، گہری بنیاد والا، علاقائی یا مقامی۔ مُستَوطِن: ملکی دیسی، گھریلو، مقیم، گہری بنیاد والا۔ استیطان: آبادی کے لئے آنا، آباد ہونا، نو آبادی، آباد کاری، استعمار، تیونس میں ایک خاص محصول یا خراج۔

وطی: وَطَّی توطِیَۃً الشیءَ: کو نیچے کرنا، کا مرتبہ گھٹانا۔ تَوَطَّی: نیچا ہونا، مرتبہ کا گھٹ جانا۔ الواطِی عند العامۃ: کمینہ، نشیبی، نیچا۔ کہتے ہیں: رجُلٌ واطٍ و مکانٌ واطٍ: کمینہ آدمی، نیچی جگہ۔

وظب: وَظَبَ یَظِبُ وُظُوبًا الأمرَ و علی الأمر: پر ہمیشگی کرنا۔ صفت: وَاظِب۔ ـ وَظْبًا الشیءَ: کو روندنا۔ وَاظَبَ مُوَاظَبَۃً علی الأمر: کسی کام پر مداومت کرنا۔ ـــ ہٗ علی خدمۃ فلان: کو کسی کی خدمت پر اکسانا۔ تواظبَت علیہ الریاحُ: پر ہواؤں کا لگاتار یا پے در پے آنا۔ المِیظَب: گول تیز کیا ہوا پتھر۔ المَوظُوب (مفع) کہا جاتا ہے: رجُلٌ مَوظُوب: وہ شخص جس کے مال پر مسلسل آفتیں آئیں۔

ج وَظَبَ یَظِبُ وُظُوبًا ہ / علی: کو متواتر کرنا، باقاعدگی سے کرنا، کو کرتے رہنا، کو ہمیشہ کرنا، کو کرنا جاری رکھنا۔ وَاظَبَ: مندرجہ بالا معانی نیز وَاظَبَ علی: پر ثابت قدم رہنا، میں محنت سے لگا رہنا، کو ثابت قدمی سے کرنا۔ مُوَاظَبۃ: سرگرمی، تندہی، جاں فشانی، محنت، مشقت، ثابت قدمی، استقلال، مستقل مزاجی۔ مُوَاظِب: محنتی، مستعد، مستقل مزاج ثابت قدم، متواتر، پے در پے۔

وظر: وَظِرَ یَوْظَرُ وَظَرًا: موٹا اور پر گوشت ہونا۔ صفت: وَظِر۔

وظف: وَظَفَ یَظِفُ وَظْفًا البعیرَ: اونٹ کے پاؤں کی رسی چھوٹی کرنا، کی پنڈلی کی ہڈی پر مارنا۔ ـ القومَ: کی پیروی کرنا۔ ـ الشیءَ علی نفسہ: کو اپنے پر لازم کرنا، مقرر کرنا۔ وَظَّفَ ہٗ: کا روزینہ مقرر کرنا۔ ـــ علیہ عملاً: کے لئے کام مقرر کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَظَّفَ لہُ الرزقَ ولدابتہ العلف: اس نے اس شخص کے لئے رزق اور اپنے جانور کے لئے چارہ مقرر کیا۔ وظَّف علی الصبی کلَّ یوم حفظ آیات مِن کتاب اللّٰہ: اس نے بچے کے لئے کتاب اللہ کی کچھ آیات مقرر کیں کہ انہیں حفظ کرے۔ وَاظَفَ ہٗ: سے موافقت کرنا اور برابر اس کے ساتھ رہنا۔ اِستَوظَفَ الشیءَ: سب چیز لے لینا۔ الوَظِیف جمع وُظُف و اَوظِفَۃ (ع ا): گھوڑے اونٹ وغیرہ کی [illegible] سکنے والا۔ کہا جاتا ہے: جاءت الابلُ علی وظیفٍ واحدٍ: اونٹ آگے پیچھے قطار میں آئے۔ الوَظِیفَۃ جمع وَظَائِف و وُظُف: مقرر کردہ کام، کھانا و رزق وغیرہ۔ عہد، شرط، منصب، خدمت۔ کہا جاتا ہے: للدنیا وَظَائِف: دنیا بہت سی تبدیلیاں رکھتی ہے۔

ج وَظَّفَ ہ علی: کو کوئی کام دینا یا سونپنا، یا تفویض کرنا، کوئی چیز خصوصاً ٹیکس کو کسی پر لاگو کرنا، سے کسی کو بوجھل کرنا، کوئی بوجھ کسی پر ڈالنا، سے کسی کو زیر بار کرنا۔ ـــ ہ: کو کوئی عہدہ دینا، کو کسی منصب پر فائز کرنا، کو ملازمت دینا، کو کرائے پر لینا۔ ـــ ہ: روپیہ لگانا۔ تَوَظَّفَ: کسی عہدہ پر فائز ہونا، مقام حاصل کرنا، ملازم ہونا، کسی عہدہ پر فائز ہونا، کسی حیثیت میں کام کرنا، کوئی کام رکھنا، برسرِ روزگار ہونا۔ تَوَظَّفَ فی الحکومۃ: حکومت میں بطور اہلکار کام کرنا۔ وَظِیفۃ جمع وَظَائِف: روزانہ راتب، تنخواہ، عہدہ، درجہ، مقام، منصب، نوکری ملازمت، کام، اہلکاری، دفتری حکومت، بیوروکریسی، فرض، مفوضہ کام، (سکول کی طرف سے دیا ہوا) گھر پر کرنے کا کام، سبق، ہوم ورک، ملازمت، سروس، خدمت، کام، فرض منصبی، وظیفہ۔ أَدَّی وظیفۃ: عہدہ پر کرنا، فرض ادا کرنا، کوئی کام کرنا۔ وَظَائِف خالیۃ: خالی آسامیاں، خالی جگہیں، خالی جگہوں یا ضرورت ہے کا اخباروں میں اشتہار۔ عِلمُ الوظائِف یا علم وَظَائِف الأعضاء: علم اعضاء، عضویات (physiology)۔ وَظِیفی: فرائض سے متعلق۔ تَوظِیف: ملازمت، برسرِ روزگار ہونا، کسی عہدہ پر تقرر۔ توظیف المال: روپیہ لگانا، رقم لگانا، سرمایہ کاری۔ مُوَظَّف: مقررہ (تنخواہ) ملازم، مقرر کیا ہوا، تعینات کیا ہوا جمع موظفون: ملازم، مزدور، اہلکار، آفیسر، سول سرونٹ۔ مُوَظَّفُ الحکومۃ: گورنمنٹ ملازم، حکومتی اہلکار، افسر۔ مُوَظَّف عُمُومی: عوامی اہلکار۔ أکبرُ الموظفین: سینئر اہلکار یا آفیسر۔

وع: وَعْوَعَ وَعْوَعَۃً و وَعْوَاعًا الکلبُ او ابن آوی: کتے اور گیدڑ کا بھونکنا، چیخنا۔ ـــ القومُ: شور مچانا۔ ـــ القومَ: کو زور سے ہلانا۔ الوَعّ (ح): گیدڑ، گیدڑ کی آواز کی نقل، بچے کے رونے کی آواز۔ الوَعْوَاع (مص): لوگوں کی شور مچانے والی جماعت، بیہودہ گو، گیدڑ یا کتے کی آواز۔ الوَعْوَع جمع وَعَاوِع (ح): گیدڑ، لومڑی، فصیح خطیب، بیابان، بیدبان۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وعب: وَعَبَ يَعِبُ وَعْبًا الشيءَ: سب چیز لے لینا۔ اَوْعَبَ اِيْعَاباً الشيءَ: سب چیز لے لینا، کوجمع کرنا۔ ــ الأمرَ سے فارغ ہونا۔ ــ الرجُلَ: کی پوری زبان کاٹ لینا۔ ــ الشيءَ في الشيءِ: چیز کو چیز میں پورا کا پورا داخل کرنا۔ ــ في مالِه: اپنے مال میں اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا۔ ــ القومُ: سب لوگوں کا نکل جانا۔ اِسْتَوْعَبَ اِسْتِيعَاباً الشيءَ سب چیز لے لینا، کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ــ الحديثَ بات پوری حاصل کرنا۔ ــ المكانُ او الوعاءُ الشيءَ: جگہ یا برتن کا چیز کے لئے کافی ہونا۔ الرَّغْبُ جمع وِعَاب: کشادہ راستہ، شاہراہ۔ الوَعِيب: کشادہ۔ بيتٌ وعِبٌ و وعاءٌ وعِبٌ کشادہ گھر اور کشادہ برتن۔ المُوعَّب: کشادہ کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے: هذا اَوْعَبُ لكذا: یہ فلاں چیز کو حاصل کرنے کے لائق ہے۔

○ وَعَبَ يَعِبُ وَعْباً ه: کو پوری یا ساری کی ساری لے لینا۔ اَوْعَبَ ه: کو پوری یا ساری کی ساری لے لینا۔ اَوْعَبَ ه في: کو میں ڈالنا، داخل کرنا۔ اِسْتَوْعَبَ: بمعنی وَعَبَ نیز اسْتَوْعَبَ ه: کو جڑ سے اکھاڑنا، کا خاتمہ کرنا، کو بنیاد سے اکھیڑنا، کا قلع قمع کرنا۔ ــ ه بين ذراعيه سے گلے ملنا، کو گلے لگانا، کو آغوش میں لینا، سے ہم آغوش ہونا، کا بازوؤں سے احاطہ کرنا، کو بازوؤں سے گھیر لینا۔ ــ ه: پر مشتمل ہونا، کو پکڑنا، پکڑے رکھنا، پکڑے رہنا، کو شامل کرنے کے قابل ہونا، کے لئے گنجائش رکھنا، کو سمجھنا، کا ادراک کرنا۔ اِستيعاب گنجائش، وسعت، ظرف، سمائی، مطالعہ، مکمل ادراک، پکڑ، گرفت۔

وعث: وَعِثَ يَوْعَثُ وَعْثاً و وَعَثاً الطريقُ: راستہ کا دشوار گزار ہونا۔ ــ الأمرُ: معاملہ کا الجھا ہوا اور خراب ہونا۔ صفت: وَعْثٌ و وَعِثٌ و توعَّثٌ و اَوْعَث ــ وَعَثَات يدُهُ: کا ہاتھ ٹوٹ جانا۔ صفت وَعْثَة۔ وَعُثَ يَوْعُثُ دُعُوثَةً الطريقُ: راستہ کا دشوار گزار ہونا ــ الامر: معاملہ کا الجھا ہوا اور خراب ہونا۔ صفت: وَعْثت وَعِث وتُوعّث و اَوْعَث۔ وَعَّثَ تَوْعِيثاً ه عن الأمر: کو سے روکنا۔ اَوْعَثَ: دشوار گزار راستہ میں پڑنا، چلنا۔ ــ المتكلمُ: کلام نہ کرسکنا۔ ــ فلاناً: کو دشوار گزار راستہ میں چلنے پر اُکسانا۔ الرجُلُ: الجھاؤ پیدا کرنا۔ ــ الامرَ: کو خراب کرنا، بگاڑنا۔ ــ في ماله: مال میں اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا۔ الوَعْث (مص) جمع وُعُث و وُعُوث: ٹوٹی ہوئی ہڈی، لاغری، سخت دشوار، دشوار گزار راستہ، نرم زمین جس میں پاؤں دھنس جائیں، مشکل اور سخت کام۔ الوَعْثاء: مشقت، تھکن، تکان، ہر بری خصلت۔ کہا جاتا ہے: ركب الوَعْثاءَ: اس نے گناہ کیا، گناہ کا ارتکاب کیا۔ الوُعُوث: سختی، برائی۔ المَوْعُوث: ناقص حسب کا۔

○ وَعْث و وَعِث: مشکل، سخت، تکلیف دہ، محنت طلب، کٹھن، تھکا دینے والا۔ وَعْثاء: دشواری، تکلیف، پریشانی، مصیبت، سختی، بے آرامی۔

وعد: وَعَدَ يَعِدُ وَعْداً وعِدَةً و مَوْعِداً و مَوْعِدَةً و مَوْعُوداً و مَوْعُودَةً فلانا الأمرَ و بالامر: کسی سے کسی کام کرنے کا وعدہ کرنا۔ ــ ت الأرضُ: زمین کا اچھی امید دلانا۔ ــ وَعِيْداً الرجُلَ: کو دھمکی دینا۔ ــ الفحل: سانڈھ کا بڑبڑانا، وَاعَدَ مَوَاعَدةً ه: ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ ــ ه الموضعَ او الوقتَ: سے وعدہ پورا کرنے کے لئے جگہ یا وقت مقرر کرنا۔ وَاعَدَهُ فوَعَدَهُ يَعِدُهُ: ایک کا دوسرے سے زیادہ وعدہ کرنے والا ہونا۔ اَوْعَدَ اِيعَاداً ه: سے وعدہ کرنا، کو دھمکی دینا۔ تَوَعَّدَهُ: کو دھمکی دینا۔ تَوَاعَدَ القومُ: ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ اِتَّعَدَ اِتِّعَاداً: وعدہ قبول کرنا اور اس پر اعتبار کرنا۔ ــ القومُ: ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ ــ ه: سے وعدہ کرنا۔ اِيتَعَدَ يا تَعِدُ صفت مُوتَعِد: اِتَّعد کے معنی میں ضعیف لغت ہے۔ اِسْتَوْعَدَهُ: سے وعدہ کرانا۔ العِدَة (مص): وعدہ۔ الوَعْد (مص): (بعض کے نزدیک اس کی جمع نہیں آتی جب کہ بعض کے نزدیک اس کی جمع وُعُود ہے): وعدہ۔ المَوعِد (مص) جمع مَوَاعِد: وعدہ، وعدہ کرنے کی جگہ، وعدہ کا زمانہ، عہد۔ المِيعاد جمع مَوَاعِيد: وعدہ کا وقت، وعدہ کی جگہ۔ بمعنی المُوَاعَدَة۔ المَوْعُود مفع: وعدہ کیا ہوا۔ اليومُ الموعود: قیامت کا دن۔

○ وَعَدَ يَعِدُ وَعْداً: وعدہ کرنا، قول دینا۔ ــ ه ہ یا ــ ہ ب: سے کا وعدہ کرنا۔ ــ ہ ب: کو کی دھمکی دینا۔ وَعَدَ نفسَه بأن: اپنے آپ سے وعدہ کرنا کہ وہ، کا ارادہ ہونا۔ وَعَدَ بِشَرَفِهِ: اپنی عزت کی قسم کھا کر عہد کرنا، قول دینا۔ وَاعَدَ: انتظام کرنا۔ ــ ه ه: کے ساتھ دیئے گئے وقت یا کسی جگہ کے لئے ملاقات کا انتظام کرنا، کے ساتھ ملاقات کا وقت یا جگہ مقرر کرنا۔ اَوْعَدَ: بمعنی وَعَدَ۔ تَوَعَّدَ: دھمکی دینا۔ ــ ه: کے لئے خطرہ بننا۔ تَوَاعَدَ: ملاقات کا وقت مقرر کرنا۔ اِتَّعَدَ أن: مفاہمت یا سمجھوتہ ہو جانا کہ، آپس میں متفق ہو جانا کہ، انتظامات کرنا کہ...... وَعِيد: دھمکیاں، وعدے۔ عِدَة و وَعْد جمع وُعُود: وعدہ۔ وَعِيدى: دھمکی آمیز، خطرناک، دھمکی کی طرز کا، تہدید آمیز۔ مَوعِد و مَوعِدَة جمع مَوَاعِد: وعدہ، عہد و پیمان، حلف، قسم، عہد، سوگند، اقرار، ذمہ داری، وعدہ کی ملاقات، وعدہ کی ملاقات کا مقام، تاریخ، ملاقات کا وقت، ملاقات کا وقت اور جگہ، مقررہ وقت، وقت، تاریخ، مقررہ حد، آخری مدت، سالانہ تقریب، سالگرہ۔ مِيعَاد جمع مَوَاعِيد: وعدہ، ملاقات کا وقت، تاریخ، ملاقات کا وقت اور جگہ، مقررہ وقت، متفقہ وقت، آخری مدت، مقررہ حد، تاریخ (خصوصاً قرض ادا کرنے کی تاریخ، مشورہ کا وقت، دفتری وقت یا اوقات، عجائب گھر وغیرہ کے اوقات، ٹرینوں، بسوں وغیرہ کی روانگی کا وقت)۔ في الميعاد يا في ميعادِه: بروقت، پابندیٔ وقت کے ساتھ۔ مِن غير مِيعاد: قطعاً غیر متوقع طور پر، اچانک۔ كان على ميعادٍ مع: سے ملاقات کے وقت کا حامل ہونا۔ بيان المواعيد: ریلوے کا ٹائم ٹیبل۔ مِيعادُ الاكل: کھانے کا وقت۔ مِيعادُ التسليم: حوالگی یا سپردگی کی تاریخ (date of delivery)۔ مِيعادُ المرأة: ماہواری، حیض۔ مواعيدُ عُرقوبيه: فریب دہ وعدے۔ ارض الميعاد: وعدہ کی سرزمین، ارض موعود۔ مُوَاعَدہ: انتظام، اتفاق، ملاقات کا وقت اور جگہ، تاریخ۔ ايعاد: دھمکی۔ تَوَعُّد: دھمکی۔ تَوَعُّدِى: دھمکی آمیز، تہدید آمیز، خطرناک، دھمکی کی طرز کا۔ موعود: وعدہ شدہ مقررہ، طے شدہ (وقت)۔ مَوْعُود و مَوْعُودَة جمع مواعيد: وعدہ۔

وعر: وَعَرَ يَعِرُ وَعْراً فلاناً: کو اس کی حاجت سے روکنا، کو ارادہ سے باز رکھنا۔ ــ وَعْراً و وُعُوراً و وَعِرَ يَوْعَرُ و يَعِرُ وَعَراً المكانُ: جگہ کا سخت ہونا، دشوار گزار ہونا۔ صفت: وَعْرٌ۔ وَعُرَ يَوْعُرُ وَعَارةً و وُعُورَةً المكانُ: جگہ کا سخت ہونا، دشوار گزار ہونا۔ ــ الشيءُ: تھوڑا ہونا۔ صفت: وَعْرٌ۔ وَعَّرَ المكانَ: جگہ کو سخت کرنا، دشوار گزار بنانا۔ ــ الرجُلَ: کو اس کی حاجت سے روکنا، ارادہ سے باز رکھنا۔ ــ المتكلّمَ: کی بات کاٹنا۔ اَوْعَرَ اِيعاراً به الطريقُ: پر راستہ کا دشوار گزار ہونا اور اسے دشوار گزار جگہ پہنچانا۔ ــ المكانَ او الطريقَ: جگہ یا راستہ کو دشوار گزار پانا۔ الرجُلُ: سخت اور دشوار گزار زمین میں جا پڑنا، کم مال والا ہونا۔ ــ الشيءَ: کو کم کرنا۔ تَوَعَّرَ المكانُ: جگہ کا سخت اور دشوار گزار

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہونا۔ — الامرُ علیّ: معاملہ کا مجھ پر سخت ومشکل ہونا۔ الرحلُ: سختی کرنا۔ — فی الکلام: کلام میں سرگشتہ وحیران ہونا۔ — ۂ فی الکلام: کو کلام میں حیران کرنا۔ اِستَوعَرَ المکانَ او الطریقَ: جگہ یا راستہ کو سخت ودشوار گزار پانا۔ الواعر (فا): مشکل، سخت جگہ۔ الوَعر جمع اَوعُر و وُعُور و اَوعار و وُعُورۃ: خوفناک اور وحشتناک جگہ، سخت جگہ۔ سکانٌ و عرٌ و طریقٌ و عرٌ و مطلبٌ و عرٌ: سخت جگہ، سخت راستہ، سخت مطلب۔ رجلٌ وَعرُ المعروفِ: کم خیر والا آدمی۔ الوَعِر جمع اَوعار و لوَعِر جمع اَوعار و الاَوعَر: سخت جگہ۔ الوعرِیّ من الکلام: کم استعمال ہونے والا اور ذوق پر گراں وثقیل کلام۔

۞ وَعَرَ یَعِرُ وَعراً و وُعُوراً و وَعِرَ یَوعَرُ وَعَراً و وَعُرَ یَوعُرُ وَعارۃً و وُعُورۃً و تَوَعَّرَ: زمین کا ناہموار، دشوار گزار سنگلاخ، سخت اور دشوار ہونا۔ وَعَر: چٹان کے ٹکڑے، ریزے، ناہموار بے راستہ زمین۔ وَعِیر و وَعَر جمع وُعُور و اَوعار: چٹان کے ٹکڑوں سے ڈھکا ہوا، شگاف دار، ناہموار، پھٹا ہوا، چیرا ہوا، بنجر، ناہموار، بے راستہ، سخت، دشوار۔ وُعُور: ناہمواری، مشکل۔ وعورۃُ الارض: دشوار زمین۔ اَوعَر: زیادہ ناہموار، زیادہ سخت۔

وعز: وَعَزَ یَعِزُ وَعزاً و وَعَّزَ تَوعِیزاً و اَوعَزَ ایعازاً الیہ فی کذا أن یفعلہ او یترکہ: سے آگے بڑھ کر اشارہ کرنا کہ وہ فلاں کام کرے یا ترک کردے۔

۞ اَوعَزَ فی/ب الی: کا کسی کو خیال دلانا۔ — الی ب/فی: کو کا اشارہ کرنا، کو کوئی چیز تجویز کرنا، کے دل میں کچھ ڈالنا یا کے دل میں ڈالنا کہ وہ کچھ کرے، کو کا مشورہ دینا۔ — الی ب: کو برانگیختہ کرنا، کو حکم دینا کہ وہ کچھ کرے۔ ایعاز: صلاح مشورہ، ہدایت، سفارش، تجویز، اطلاع، اشارہ۔ ایعازی: مشاورتی، ماہرانہ، سفارشی، الہامی۔ مُوعَزٌ بہ: کسی اعلیٰ حاکم کی طرف سے تجویز کردہ، تلقین کردہ۔

وعس: وَعَسَ یَعِسُ وَعساً الشیءَ: کو روندنا۔ — ۂ الدھرُ: زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا۔ وَاعَسَ ۂ: سے رات کو تیز چلنے میں مقابلہ کرنا۔ — ت الابلُ: اونٹوں کا گردن لمبی کر کے لمبے لمبے قدموں سے چلنا۔ اَوعَسَ ایعاسا القومُ: ریتلی زمین میں چلنا، اندھیرے میں چلنا۔ — ت الابلُ: اونٹوں کا گردن لمبی کر کے لمبے لمبے قدموں سے چلنا۔ الوَعس (مص) جمع اَوعاس: اثر، ریت، جس میں چلنا دشوار ہو اور قدم گڑ گڑ جائیں (ن): ایک درخت جس سے چھڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ الوَعسۃ: ریت جس میں قدم وغیرہ گڑ گڑ جائیں۔ الاَوعَس جمع وُعس و اَوعُس و جمع الجمع اَواعِس: نرم ریت والی جگہ جس میں چلنا دشوار ہو۔ الوَعساء: سبزی والا، ریتلا ٹیلہ۔ وَعساءُ الرمل: ہموار ریت۔ المَوعِس: بمعنی: الوَعس۔ المیعاس جمع مَواعِیس: نرم ریت، زمین جس پر کوئی چلا نہ ہو، راستہ۔ المُوَعَّس: چلتا ہوا راستہ۔

۞ وَعَسَ یَعِسُ وَعسا ہ: قسمت کا کسی کو تجربہ کار اور عقلمند بنانا۔ وَعس جمع اَوعاس: دل دل، ریگ رواں۔ میعاس: ریگ رواں، دلدل۔

وعط: الوعاط (ن): زرد گلاب۔

وعظ: وَعَظَ یَعِظُ وَعظاً و عِظَۃً ۂ: کو نصیحت کرنا، کو ایسی باتوں کی طرف متوجہ کرنا جو توبہ اور کردار کی اصلاح کا باعث ہوں۔ اِتَّعَظَ: نصیحت قبول کر کے اس پر عمل کرنا۔ الواعظ جمع واعِظون و وُعّاظ (فا): نصیحت کرنے یا، وعظ کرنے والا۔ العِظَۃ جمع عظات: نصیحت، وعظ۔ الوَعظۃ جمع وَعظات: وعظ کا اسم مرۃ، وعظ ونصیحت۔ الوَعّاظ: واعظ کا اسم مبالغہ، بہت وعظ کرنے والا۔ المَوعِظۃ جمع مَواعِظ: وعظ ونصیحت۔

۞ وَعَظَ یَعِظُ وَعظاً و عِظَۃً ہ: کو نصیحت کرنا، کو وعظ و نصیحت یا پند و موعظت کرنا، کی ضمیر کو اپیل کرنا، کو سمجھانا، نشیب وفراز دکھانا، کو تاکید کرنا۔ — ہ عن: کو سے متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ اِتَّعَظَ: سمجھ جانا، متنبہ ہونا، خبردار ہونا، نصیحت پکڑنا۔ — ب: سے سبق سیکھنا، سے تنبیہ یا آگاہی حاصل کرنا۔ عِظَۃ جمع عِظات: وعظ، سبق، نتیجہ، تنبیہ، آگاہی، نصیحت، ہدایت۔ وَعظ و وَعظَۃ: نصیحت، ہدایت، فہمائش، تنبیہ، آگاہی، وعظ۔ مَوعِظۃ جمع مَواعِظ: مذہبی تاکید یا نصیحت، روحانی مشورہ، تاکید، تاکیدی گفتگو، سخت سبق، شدید سرزنش۔ واعظ: وعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا۔

وعف: وَعَفَ یَوعُفُ وُعُوفاً البصرُ: نظر کا کمزور ہونا۔ الوَعف جمع وِعاف: سخت جگہ جس میں پانی رستا رہے۔

وعق: ۱۔ وَعِقَ یَعِقُ وَعقاً علیہ: پر جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے: ما اَوعَقَہُ: وہ کس قدر تیز ہے؟ (تعجب کے اظہار کے لئے آتا ہے)۔ الوَعقۃ: ایک بار۔

۲۔ وَعَقَ یَعِقُ وَعقاً و وُعاقاً و وَعیقاً الفرسُ: چلتے وقت گھوڑے کے پیٹ سے آواز نکلنا۔ الوُعاق و الوَعِیق: چلتے وقت جانور کے پیٹ سے نکلنے والی آواز، ہر چیز کی آواز۔

۳۔ وَعِقَ یَوعَقُ وَعقَۃً و تَوَعَّقَ و استَوعَقَ: کمینہ خلق ہونا صفت: وَعق و وَعِق و وَعقۃ و وَعِقۃ۔ وَعَّقَ ۂ: کی مخالفت کرنا، کو روکنا، کو بدخوئی کی طرف منسوب کرنا، کو بگاڑنا، کہا جاتا ہے: وَعَّقَہُ الطمعُ او الجھلُ: اسے لالچ یا جہالت نے بگاڑ دیا۔ الوَعقۃ: بدخوئی، طبیعت کی درشتی۔ کہا جاتا ہے: بہ وَعقۃٌ: اس کی طبیعت میں درشتی ہے، وہ بدخو ہے۔

۞ وَعق و وَعِق: اکھڑ، بدمزاج، ترش رو، چڑچڑا، تندخو، زود رنج، تنگ مزاج، جھگڑالو، حجتی، تکراری، الٹی کھوپڑی کا۔

وعك: وَعَکَ یَعِکُ وَعکاً و وَعکَۃً الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا۔ — تہ الحُمّی: بخار کا کسی پر سخت ہونا اور اسے تکلیف دینا۔ صفت مفعولی: مَوعُوک۔ — الرجلُ: سخت تکان یا بیماری سے دردمند ہونا۔ — وَعکاً الشیءَ: کو توڑنا۔ — الشیءَ فی التراب: کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرانا۔ — ت الابلُ عند الحوض: اونٹوں کا حوض پر ہجوم کرنا۔ اَوعَکَ الشیءَ فی التراب: کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرانا۔ — ت الابلُ عند الحوض: اونٹوں کا حوض پر ہجوم کرنا۔ تَوَعَّکَ: بخار میں مبتلا ہونا۔ الوَعک (مص) والوَعِک: بخار میں مبتلا۔ الوَعکۃ (مص): وعک کا اسم مرۃ، ہوا کا رکنا اور گرمی کی تیزی، بیماری، میدان جنگ، دوڑ میں بری طرح گرنا۔ وَعکۃ الحمّی: بخار کی شدت۔ — الامرِ: معاملہ کی سختی۔ — الابلِ: اونٹوں کے ریوڑ۔ المَوعُوک (مفع): بخار میں مبتلا، بیمار۔

۞ تَوَعَّکَ: علیل، ناساز طبیعت والا یا کچھ بیمار ہونا۔ الوَعِک: کچھ بیمار، ناساز طبیعت والا۔ تَوَعُّک: علالت، ناسازی طبیعت۔ موعوک: ناساز طبیعت والا، کچھ بیمار، علیل، بیمار۔ مُتَوَعِّک: ناساز طبیعت والا، کچھ بیمار، علیل، بیمار۔

وعل: ۱۔ وَعَلَ یَعِلُ وَعلاً الرجلُ: اوپر سے جھانکنا۔ تَوَعَّلَ الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ اِستَوعَلَتِ الاَوعالُ: پہاڑی بکریوں کا پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھنا۔ الوَعل جمع اَوعال و وُعُول: شریف۔ کہا جاتا ہے: ھم علینا وعلٌ واحدٌ: وہ سب دشمنی میں ہمارے خلاف متحد ومتفق ہیں۔ — والوَعِل و الوُعِل جمع اَوعال و وُعُول و وُعُل و وَعِلۃ و مَوعَلۃ

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

وعِلة جمع وَعِلات و وِعَال: پہاڑی بکرا۔
الوَعْل: پہاڑ کا دشوار گزار حصہ۔ — من القميص: قمیص کا کاج۔ وُعْلَةُ الإبريق: لوٹے کا دستہ۔
المُسْتَوعَل جمع مُسْتَوعَلات: پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑی بکری کی جائے پناہ۔

۲۔استَوعَلَ اليه: کے پاس پناہ لینا۔ الوَعْل جمع اَوْعَال و وُعُول: جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے: مَالَكَ عَنهُ وَعْل: تجھے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

وعم: وَعَمَ يَعِمُ وَعْماً الديارَ: قبیلہ کے خیموں کو "اِعْمِي" (اقبال مند ہو) کہہ کر خوش آمدید کہنا۔ عِمْ صباحاً: صبح بخیر۔ عِمْ مساءً: شام بخیر۔ — بالخبر: کو خبر دینا۔ وَعِمَ يَعِمُ وَعْماً الديارَ: بمعنی وَعَمَ۔ الوُعْم جمع وِعَام: پہاڑ میں نشان جو اس کے بقیہ رنگ کے مخالف ہو۔

وعن: ۱۔تَوَعَّنَ الشيءَ: کو پورا لینا۔ — ت الدابَّةُ: جانور کا انتہائی موٹا ہونا۔

۲۔ الوَعْن جمع وِعَان: جائے پناہ۔ — و الوَعْنَة جمع وِعَان: سخت زمین، زمین کی وہ سفید جگہ جہاں کچھ نہ اُگے۔

وعی: وَعَى يَعِي وَعْياً الشيءَ: کو جمع کرنا، رکھنا، شامل کرنا۔ — الحديثَ: کو قبول کرنا، پر غور کرنا، کو یاد کرنا۔ — ت الأُذُنُ: سننا۔ (عام لوگ کہتے ہیں: وَعِيَ فلانٌ: فلاں نیند یا غفلت سے بیدار ہوا)۔ — القيحُ في الجرحِ: زخم میں پیپ جمع ہونا۔ — الجرحُ: زخم کا پیپ بہانا۔ — العظمُ: ہڈی کا ٹوٹنے کے بعد جڑنا۔ اَوْعَى اِيعاءً الكلامَ او الشيءَ: کو یاد کرنا، جمع کرنا۔ — الزادَ و نحوَهُ: خوراک وغیرہ برتن میں رکھنا۔ — الشيءَ: سب لے لینا۔ — الرجلُ و عليه: سے بخل کرنا، کنجوسی کرنا۔ اِستَوعَى الشيءَ: سب چیز لے لینا، کو جمع کرنا۔
الراعي: فا۔ واعِي اليتيم: یتیم کا سرپرست و محافظ۔ الواعِيَة: الواعي کا مونث۔ الوُعْي — : پیپ: ظاہری عقل، ظاہری شعور۔ کہا جاتا ہے: مالِي عنه وُعْيٌ: میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ الوَعِيّ: محافظ، فقیہ۔ الوِعاء و الوُعاء جمع اَوْعِيَة و جمع الجمع اَوَاعٍ: برتن۔ وعائيات البزور و مستورات البزور (ن): بادام کی طرح کی نباتات جن کا بیج خول کے اندر ہوتا ہے۔ بغیر خول کے نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے: هُوَ أَوْعَى من فلان: وہ فلاں سے زیادہ یاد رکھنے اور سمجھنے والا ہے۔ — هو اَوْعَى من ...: وہ چیونٹی سے زیادہ جمع کرنے والا ہے۔ اللاوعي: باطنی عقل یا شعور۔ مَوعِيُّ الرسغِ: مضبوط کلائی والا۔

۲۔الواعِية: آواز، چیخ، شور۔ الوَعَى و الوَغَى: شور و غل، آوازیں۔ فرس وَعي: مضبوط گھوڑا۔

ت وَعَى يَعِي وَعْياً ه: کو رکھنا، پر مشتمل ہونا، پر محیط ہونا، کو شامل ہونا، کو یاد رکھنا، یاد کرنا، حفظ کرنا، جاننا۔ — ه بالي: پر توجہ کرنا، پر کان دھرنا، کو ذہن میں رکھنا، کو سننا، سمجھ لینا، دیکھ لینا۔ — الي: سے آگاہ ہونا۔ وعي علي نفسه: پر واضح ہونا۔ لایعي: وہ بے ہوش ہے۔ لا يكاد يعي: وہ تقریباً بے ہوش ہے۔ لایعي مایقول: وہ نہیں جانتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَعَّى ه من: کو سے خبردار کرنا۔ اَوْعَى ه: کو برتن وغیرہ میں رکھنا۔ تَوَعَّى: احتیاط سے کرنا، ہوشمندی سے کرنا۔ — من: سے آگاہ ہونا، خبردار ہونا، سے چوکنا، چوکس یا ہوشیار ہونا۔ وَعْي: توجہ، دھیان، التفات، خبرداری، بیداری، چوکسی، ہوشیاری، فکرمندی، احتیاط، آگاہی، آگہی، شعور، واقفیت، احساس، سمجھ، خیال، چوکسی، چستی، ہوشیاری، مستعدی۔ في غير وعي: بغیر دیکھے، دیکھے جانے کے بغیر۔ وعي قومي: قومی شعور، قوم پرستی، وطن پرستی، قومی آزادی کی تحریک سے ہمدردی۔ ماوراء الوعي: تحت الشعوری، نیم شعوری۔ استرجع وعيَهُ و عاد الي وعيِهِ: ہوش میں آنا۔ فقد وعيَهُ: بے ہوش ہونا، غش کھانا۔ دونَ وَعْيٍ: نادانستہ، غیر ارادی طور پر۔ وِعَاء جمع اَوْعِيَة و اَوَاعٍ: برتن کوئی شے رکھنے کی چیز جیسے ڈبہ، بوتل وغیرہ، چیزدان، ظرف، جوف۔ اوعية دموية: خون کی رگیں یا نالیاں۔ واعٍ: متوجہ ہوشیار، محتاط، واقف، آگاہ، باخبر، اپنے ہوش و حواس میں پوری طرح چوکنا یا بیدار۔

وغب: ۱۔ وَغُبَ يَوْغُبُ وَغَابَةً و وُغُوبَةً الجملُ: اونٹ کا ضخیم ہونا۔ الوَغْب جمع اَوْغاب و وِغاب موت وَغْبَة: موٹا اونٹ، ضخیم اونٹ۔

۲۔ الوَغْب جمع اَوْغاب و وِغاب مونث وَغْبَة: ردی سامان، جسم کا کمزور، کمینہ، ذلیل۔ — و الوَغْبَة: احمق۔

وغد: ۱۔ وَغَدَ يَغِدُ وَغْداً القومَ: قوم کی خدمت کرنا۔ وَغُدَ يَوْغُدُ وَغَادَةً: کمزور عقل والا ہونا، کمینہ ہونا۔ الوَغْد: تیر جس کا جوئے میں کوئی حصہ نہ ملے، شکار۔ — جمع اَوْغاد و وُغْدان و وِغدان مؤنث وَغْدَة: ضعیف العقل، احمق، کمینہ، بچہ، قوم کا خادم، غلام۔

۲۔واغَدَ مُواعَدَةً ه: کے فعل جیسا فعل کرنا۔ — فلاناً في السير: سے چلنے میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا۔

ت وَغْد جمع اَوْغَاد و وُغْدان: سخت غمزدہ، سخت بری حالت میں، مصیبت زدہ، بدبخت، گھٹیا، بدذات، بدمعاش، لچا، غنڈہ۔

وغر: ۱۔وَغَرَ يَغِرُ وَغْراً اليومُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ — تْهُ الشمسُ: پر تیز دھوپ پڑنا۔ — وَغْراً و وَغِرَ يَوْغَرُ وَغَراً صدرُهُ علي فلان: پر غصہ سے گرم ہونا۔ صفت: واغِرُ الصدر عليه۔ وَغَّرَ توغيراً ه عليه: کو کسی سے کینہ پر اکسانا۔ اَوْغَرَ ايغاراً ه: کو غضبناک کرنا۔ — صدرَهُ: کا غصہ سے سینہ بھڑکانا۔ — ه الي كذا: کو پر مجبور کرنا۔ — الماءَ: پانی کو گرم کرنا۔ — الخنزيرَ: خنزیر کو گرم گرم پانی سے دھو کر ذبح کرنا۔ — القومُ: گرمی کے وقت میں آنا۔ — الملكُ لرجلٍ ارضاً و اَوْغَرَهُ ارضاً: بادشاہ کا کسی کو بغیر خراج کے زمین دینا۔ تَوَغَّرَ: غصہ سے بھڑکنا۔ الوَغْر و الوَغَر (مصدر): کینہ، دشمنی۔ وَغْرُ الجيشِ: فوج کا شور و غل۔ الوَغْرَة: اسم مرة، گرمی کی شدت۔ کہا جاتا ہے: لقيتُه في وغرة الهاجرة: میں اس سے نصف النہار کے وقت ملا۔ الوَغِير: گرم ریت پر بھنا ہوا گوشت۔ — و الوَغِيرَة: گرم پتھروں پر گرم کیا ہوا دودھ۔

۲۔اَوْغَرَ ايغاراً القومُ بينهم مِيْغَراً: انہوں نے باہم وقت مقرر کیا۔ المِيْغَر: مقررہ وقت یا میعاد۔

ت وَغَرَ يَغِرُ و يَوْغَرُ وَغْراً و وَغَراً: گرم ہونا، غضبناک ہونا۔ — صدرُهُ علي: کے خلاف غصہ سے کھولنا، کے خلاف کینہ رکھنا، کے لئے نفرت محسوس کرنا۔ اَوْغَرَ صدرَهُ علي: کے غصہ کو کسی کے خلاف ابھارنا، کو کے خلاف بھڑکانا، کے تلخ جذبات کو کسی کے خلاف برانگیختہ کرنا۔ تَوَغَّرَ: غضبناک ہونا، برہم ہونا، غصہ سے بھڑکنا۔ وَغْر و وَغَر: غصہ، ناراضی، غیظ و غضب، قہر، برہمی، خفگی، ناراضگی، بغض، عناد، کینہ، عداوت، حسد، بداندیشی، نفرت۔

وغف: ۱۔ وَغَفَ يَغِفُ وَغْفاً و وُغُوفاً الرجلُ: جلدی چلنا، دوڑنا۔ اَوْغَفَ اِيغافاً الرجلُ: جلدی چلنا، دوڑنا۔ — الكلبُ: کتے کا زبان نکالنا۔ — الطائرُ: پرندہ کا جلدی جلدی پر پھڑ پھڑانا۔

۲۔ وَغَفَ يَغِفُ وَغْفاً و وُغُوفاً البصرُ: نظر کا کمزور ہونا۔ اَوْغَفَ اِيغافاً الرجلَ: کی نظر کمزور ہونا۔

۳۔ اَوْغَفَ اِيغافاً الرجلُ: بقدر کفایت کھانا کھانا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وغل: وَغَلَ يَغِلُ وُغُولاً دور چلا جانا۔ ـ في الشيءِ چیز میں گھس کر چھپ جانا۔ ـــ وَغْلاً و وُغُولاً و وَغَلاناً علی القوم بغیر بلائے دعوت میں آنا۔ اَوْغَلَ اِيْغَالاً فلاناً في كذا: کسی کو کسی چیز وغیرہ میں داخل کرنا۔ ـ في السير جلدی چلنا۔ ـ في البلاد ملک میں دور تک چلے جانا۔ ـ في العلم و نحوہ علم وغیرہ میں پوری پوری جدو جہد کرنا۔ ـــ لـــ دشمن کے ملک میں یا پہاڑوں کے درمیان میں گھس کر دور تک چلے جانا۔ تَوَغَّلَ في البلاد ملک میں دور تک چلے جانا۔ الوَغْل (مص) جمع اَوْغَال: کمزور، فرومایہ، کوتاہی کرنے والا، بغیر بلائے کھانے پینے پر آموجود ہونا، گنجان درخت، جائے پناہ، ایک قسم کا دانہ جو کبوتر کھاتے ہیں۔ ـــ الوَغِل جھوٹے نسب کا دعویٰ کرنے والا، بدخوراک۔ ـــ غَال بہت تعریف کرنے والا، بہت قیمت مانگنے والا۔ المتوغل (فا) جلدی داخل ہونے والا۔

ج وَغَلَ يغِلُ وُغولاً في: میں گھس کر یا داخل ہوکر دور تک چلے جانا۔ ـ وَغْلاً و وَغلاناً علی: کے سر پر زبردستی جا مسلط ہونا، کے پاس بن بلائے چلے جانا۔ اَوْغَلَ في: میں گھس کر دور تک چلے جانا، کسی سرگرمی میں تن دہی سے کام کرنا۔ ـ ہ في کو میں دھکیلنا۔ ـ: جلدی کرنا۔ اَوْغَلَ في السير: تیز تیز چلنا، جلدی سے آگے بڑھنا۔ اَوْغَلَ في الكلام: میں مبالغہ کرنا، مبالغہ آمیزی کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تَوَغَّلَ في: میں گھس کر دور تک چلے جانا، آگے اور آگے بڑھ جانا۔ وَغْل: مداخلت کرنے والا، ناخواندہ مہمان طفیلی۔ تَوَغّل: داخل ہونا، جذب، گہری سوچ، فکر۔ وَاغِــل: مداخلت کرنے والا، طفیلی، غیر متعلق، گہرا، گہری بنیاد والا، گھر کر چکنے والا، سخت، راسخ (احساس)۔ مُتَوَغِّــل: گہری بنیاد رکھنے والا، گہرائی تک پہنچنے والا۔

وغم: ۱۔ وَغَمَ يَغِمُ وَغْماً ہ: پر غالب آنا۔ وَغِمَ يَوْغَمُ وَغَماً عليه: سے کینہ رکھنا۔ اَوْغَمَ ہ: کو کینہ ور بنانا۔ تَوَغَّمَ عليه: پر غضبناک ہونا۔ ـ و تَوَاغَمَ الابطالُ في الحرب: بہادروں کا جنگ میں باہم سخت قتال کرنا، بعض کے نزدیک ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھنا، شک وشبہ کی نظر سے دیکھنا۔ الوَغْم (مص) جمع اَوْغَام: سینے میں قائم شدہ کینہ، جنگ وقتال، نس۔ ـــ رَجُلٌ وَغِمٌ: کینہ ور آدمی۔

۲۔ وَغَمَ يَغِمُ وَغْماً بالخبر: بغیر تحقیق کے خبر بیان کرنا۔ ـ اِلی الشيءِ کا وہم کرنا۔

۳۔ الوَغْم جمع اَوْغَام گراہوا کھانا، احمق۔

وغن: تَوَغَّنَ تَوَغُّناً جنگ میں پیش قدمی کرنا۔ ـ علی المَعَاصِي: گناہوں پر اصرار کرنا۔

وغی: الوَغَی و الوَغْی: آواز، شور، جنگ۔

ج وَغًــی و وَغًــی: غل، شور وغل، غوغا، شور وغوغا، غل غپاڑہ، پرشور مطالبہ یا احتجاج، ہنگامہ، کہرام، گڑبڑ۔

وفد: ۱۔ وَفَدَ يَفِدُ وَفْدًا و وُفُودًا و وِفَادَةً و اِفَادَةً اِلی او علی الامیر حاکم کے پاس وفد بن کر یا قاصد بن کر آنا۔ صفت: وَافِد جمع وَفْدٌ و وُفُودٌ و وُفّاد و وُفَّد و اَوْفَادٌ۔ وَفَدَ فلانا اِلی او علی الأمیر: کو حاکم کے پاس قاصد بنا کر بھیجنا۔ وَافَدَ فلانــا علی الامیر کے ساتھ حاکم پاس آنا۔ اَوْفَدَ اِيفَادًا: بلند ہونا۔ ـــ عليه کو اوپر سے جھانکنا۔ ـ الريمُ: ہرن کا کان و سر کھڑا کرنا۔ ـــ فلاناً الی او علی الامیر: کو حاکم کے پاس بھیجنا۔ ـــ الرجُلُ جلدی کرنا۔ تَوَفَّدَتِ الابلُ او الطيرُ: اونٹوں یا پرندوں کا ایک دوسرے سے آگے نکل جانا۔ ـــ عليه کو اوپر سے جھانکنا۔ تَوَافَدَ القومُ عليه: کے پاس لوگوں کا اکٹھے وارد ہونا۔ اِسْتَوْفَدَهُ: کو وفد بنا کر بھیجنا۔ الوَافِد (فا): رخسار کا وہ حصہ جو کھانا چباتے وقت اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ دو رخساروں کے حصے ہیں۔ ـــ من الابل و نحوها: سب سے آگے چلنے والا اونٹ وغیرہ۔ الوَفْد (مص) جمع وُفُود: وفد یعنی آدمیوں کی جماعت جو ملک میں وارد ہو، حاکم کے پاس آنے والا وفد۔ ـــ جمع وُفُود و اَوْفاد: لمبے ٹیلے کی چوٹی۔ الوَفّاد: بہت وفد والا۔

۲۔ اِسْتَوْفَدَ في قِعدَته: غیر مطمئن بیٹھنا۔ (استوفز کے معنی میں آتا ہے)۔

ج وَفَدَ يَفِدُ وَفْداً و وُفُودًا و وِفادَةً الی یا علی: کے پاس بطور قاصد، ایلچی، سفارتی نمائندہ آنا، کے سامنے آنا، کی موجودگی میں آنا۔ ـــ علی: کو ملنا، کو ملنے آنا، کی ملاقات کو جانا۔ وَفَّدَ و اَوْفَدَہ اِلی یا علی: کو کے پاس بھیجنا۔ ـــ (ہ) اِلی یا علی: کے پاس (وفد) بھیجنا۔ ـ ہ الی یا علی: کو کے پاس نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجنا، کو کے پاس (یا میں جیسے کانفرنس میں) قائم مقام، نمائندہ یا وکیل بنا کر بھیجنا۔ ـ ہ اِلی یا علی: جماعت کو نمائندہ بنا کر کسی کے پاس یا کسی جگہ بھیجنا۔ وَافَدَہُ: کے ساتھ آنا یا پہنچنا۔ تَوَافَدَ: اکٹھے آنا پہنچنا۔ ـــ علی: کو گھیر لینا، کی طرف مل کر چلنا۔ وَفْد: آنا، آمد۔ ـــ جمع وُفُود و اَوْفاد: مندوبین یا نمائندوں کی جماعت یا وفد، نمائندگان، وفد۔ الوفد (مصر کی سابق) وفد پارٹی۔ وَفْدِی: وفد کا یا وفد سے متعلق، وفدی یعنی وفد پارٹی کا رکن یا حامی، حمائتی، وابستہ یا پیرو۔ وِفادَة آمد۔ اَكْرَمَ یا اَحْسَنَ وِفادَتَهُ: کا مہمان نوازی سے استقبال کرنا، کا نوازش سے استقبال کرنا، سے ادب کے ساتھ پیش آنا۔ وُفُود آمد۔ اِيفاد: بھیجنا۔ وَافِد جمع وُفُود و اَوْفَاد و وُفّاد: آنے والا، نو وارد، آمد، ایلچی، نمائندہ، سفارتی نمائندہ، وبائی (مرض)، آنے والے خیالات وغیرہ)۔ وافِدة وبا۔ مُوفَد: کسی خاص کام کے لئے مقرر کیا ہوا یا نامزد، مندوب، نمائندہ۔ الموفد البابوی داعیانہ نمائندہ۔

وفر: وَفَرَ يَفِرُ وَفْراً و فِرَةً لهُ المالَ: کے مال و دولت کو بڑھانا، پورا کرنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو فراخ قطع کرنا۔ ـــ عرضَ فلان: کی عزت کی حفاظت کرنا، اور اسے گالی نہ دینا۔ کہا جاتا ہے: وَفَرْتُهُ عِرضَهُ: میں نے اس کی تعریف کی اور اس کی عیب جوئی نہیں کی۔ ـــ عطاءَكَ: (تیری عطاء) کو رضامندی سے واپس کر دینا یا کم جان کر واپس کر دینا۔ ـــ وَفْراً و وُفُوراً و فِرَةً و وَفُرَ يَوْفُرُ وَفَارَةً المالُ او المتاعُ: مال یا سامان زیادہ اور وسیع ہونا۔ وَفَّرَ تَوفِيراً الشيءَ: چیز کو زیادہ کرنا۔ ـــ لفلان طعَامَهُ: کے لئے خوراک مکمل کرنا۔ ـــ اللّٰهُ حَظَّهُ من كذا: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے کسی کا حصہ کامل کرنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو فراخ قطع کرنا۔ ـــ لفلانٍ عِرضَهُ: کی عزت کی حفاظت کرنا، کو گالی نہ دینا۔ ـــ المالَ: مال کم نہ کرنا۔ ـــ حِصَّةً من المال: مال کا حصہ باقی رکھنا۔ ـــ الرجُلُ: اسراف نہ کرنا (عام زبان میں)۔ ـــ في النفقة: خرچ میں کنجوسی کرنا (عام زبان میں)۔ اَوْفَرَ فلانٌ الشيءَ: چیز کو زیادہ کرنا، پورا کرنا۔ تَوَفَّرَ علی كذا: پر اپنی ہمت صرف کرنا۔ ـــ علی صاحبه: اپنے ساتھی کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھنا۔ تَوَافَرَ و اتَّفَرَ الشيءُ: زیادہ اور فراخ ہونا۔ اِسْتَوْفَرَ الشيءَ: چیز کو پورا کرنا۔ ـ الحقَّ: حق پورا لے لینا۔ الوَافِر (فا): علم عروض کی ایک بحر (مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ)۔ الوَافِرة: الوافر کا مؤنث: دنبہ کی بڑی چکدی۔ الوَفْر (مصدر) جمع وُفُور: دولت مندی۔ ـــ من المال او المتاع: بہت، وسیع مال و متاع یا عام چیز۔ الوَفْرَة جمع وِفَار: اسم مرة، کثرت، بہتات، کانوں تک لمبے بال۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

الأَوْفَر: کامل، تام۔ الوَفْرَاء: بھرا ہوا۔ مزادةٌ وَفْرَاءُ: پوری کھال۔ أذنٌ وفراء: بڑا کان۔ ارضٌ وَفْرَاء: بہت گھاس والی زمین۔ قومٌ مُتَوافِرُون: بہت لوگ۔ المُوَفَّر (مفع) المُوَفَّرُ الشَّعَر: لمبے اور بہت بالوں والا۔ کہا جاتا ہے: تركتُهُ علی أحسنِ مُوَفَّرٍ: میں نے اس کو بہت اچھی حالت میں چھوڑا۔ المَوفور (مفع): مکمل چیز۔

ض وَفَرَ يَفِرُ وَفْراً و وُفوراً و وَفُرَ يَوْفُر وَفارةً: بھرپور ہونا، کی بہتات، کثرت یا افراط ہونا، بڑی تعداد میں ہونا، کثرت سے ہونا، کافی ہونا، بہت ہونا، فراخ ہونا، کشادہ ہونا، وافر ہونا، فراواں ہونا، کثیر ہونا، متعدد ہونا، وافر ہونا، بڑھنا، اضافہ ہونا، بڑا ہونا، اور زیادہ ہونا۔ وَفَّرَ ہ: کو بڑھانا، کو وافر کرنا، فراواں کرنا، کو بہت کرنا، زیادہ کرنا۔ ـــ ہ ل: کسی چیز کا بہت یا کافی حصہ کسی کو دینا۔ ـــ ہ: (ثبوت، شہادت) مہیا کرنا، کو بچانا، محفوظ کرنا، پس انداز کرنا، سنبھال کر رکھنا، میں کفایت شعار ہونا، میں کفایت سے کام لینا، کو روکے رکھنا، (روپیہ وغیرہ) کو برے یا آڑے وقت کے لئے یا ضرورت کے لئے بچانا۔ ـــ علی ہ: کو سے بچانا، نجات دلانا۔ وَفَّر علیہ مصاریف کثیرة: کو بہت سے اخراجات سے بچانا۔ اَوْفَرَ ہ: کو بڑھانا، زیادہ کرنا۔ تَوَفَّرَ: بھرپور ہونا، کی بہتات، کثرت یا افراط ہونا، بڑی تعداد میں ہونا، کثرت سے ہونا، کافی ہونا، (شرط کا) پورا ہونا، پوری قیمت کا ہونا، کھرا، خالص، معیاری ہونا، بے عیب ہونا، معقول ہونا، قانونی ہونا، کامیاب ہونا، فروغ پانا، پنپنا، پھلنا، پھولنا، بچ رہنا۔ ـــ علی: کسی سرگرمی وغیرہ میں کسی تکلیف، زحمت، پریشانی وغیرہ سے دریغ نہ کرنا، ہر طرح کی کوشش کرنا، کو پوری توجہ دینا، اپنے آپ کو کے لئے وقف کرنا، سارا وقت کسی سرگرمی میں لگا دینا، یا کسی سرگرمی کی نذر کر دینا۔ تَوَفَّرَتْ فیه الصفاتُ اللازمة: ضروری خوبیاں رکھنا۔ تَوَفَّرت فیه الشروطُ: وہ شرائط پوری کرتا ہے۔ تَوَافَرَ: بہت ہونا، متعدد ہونا، بھرپور ہونا، بڑی تعداد میں ہونا، کثرت سے ہونا، فراواں ہونا، وافر ہونا، زیادہ ہونا، کثیر ہونا، تعداد میں بڑھنا، بڑھنا، (شرط کا) پورا ہونا۔ ـ ل: (خوبیوں وغیرہ کا بکثرت کسی کے حصہ میں آنا۔ تَوَافَر فیه الشبابُ و الجمالُ: وہ حسن و جمال سے بھرپور آراستہ ہے۔ اُسے قدرت کی طرف سے حسن و جمال کی خوبی بڑی فراخی سے عطا ہوئی ہے۔ کثرت، بہتات، افراط، دولت۔ جمع وُفُور و وفرات: بہتات، فراوانی، زیادتی، بیشی، بچت، فاضل مقدار، ضرورت سے زیادہ چیز، باقی، کفایت، جمع جتھا، اندوختہ۔ وَفْرَة: فراوانی، کثرت، افراط، وفور، بہتات۔ وَفِير: وافر، فراوان، کثیر، بہت کافی، فراخ، کشادہ۔ اَوْفَرُ ہ: میں زیادہ بہتات والا، میں بہت کثرت سے یا بڑی تعداد میں پایا جانے والا، سے بہت زیادہ ہوا، عطا کیا ہوا، آراستہ کیا ہوا۔ ـــ: زیادہ کفایت شعار، زیادہ کم خرچ۔ اَوْفَرُ حظاً: زیادہ خوش قسمت، زیادہ خوش نصیب۔ توفیر: کثرت، اضافہ، بہتات افراط، اضافہ، اضافہ کرنا، بلندی، اونچائی، کفایت شعاری کرنا، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، بچت، کفایت، صندوقُ التوفیر: سیونگز بنک۔ تَوَفُّر: بہتات، کثرت، دولت، زیادتی، اضافہ، پھیلاؤ، تکمیل، تعمیل۔ عندَ تَوَفُّرِ الشروط: شرائط پوری کرنے کے فوراً بعد۔ وَافِر: بہت، فراوان، بکثرت، بہتات میں، بڑی متعدد، وافر، کثیر، فراخدلانہ۔ مَوْفُور: بہت، فراوان، وافر، کثیر، لدا ہوا، شرابور، ناک میں دم کیا ہوا، دولت مند، امیر، روپیہ پیسہ والا، کامل، مکمل، بالکل صحیح سالم، بالکل محفوظ۔ موفورُ المطالب: بہت سی خواہشوں کا حامل۔ مُتَوَفِّر: بہت، فراوان، وافر، بہتات سے، باافراط، کفایت شعار، کم خرچ، بچت پر نفع، سود۔ مُتَوافِر: بہت، کثیر، فراواں وافر، باافراط، فراخ دلانہ۔

وفز: وَافَزَهُ: کے پیچھے دوڑنا، کو جالینا، جا پکڑنا۔ اَوْفَزَ ایفازاً ہُ: کو جلدی کرانا۔ تَوَفَّزَ للامر: کام کے لئے تیار ہونا۔ کہا جاتا ہے: أخذَ يتوفَّزُ علی فراشه: بستر پر کروٹیں بدلنے لگنا نیند نہ آنا۔ اِسْتَوْفَزَ اِسْتِيفَازاً فی قعدته: اس طرح بیٹھنا کہ فوراً اٹھ سکے، بے چینی سے بیٹھنا گویا اٹھنے کو تیار ہو۔ الوَفْز و الوَفَز جمع أَوْفاز و وِفاز: جلدی، عجلت۔ کہا جاتا ہے: نحن علی وَفْزٍ او وِفَازٍ او اَوْفازٍ: ہم روانہ ہونے کے لئے تیار ہیں، یا بہت جلدی میں ہیں۔ مکانٌ وَفْزٌ: بلند جگہ۔

ت تَوَفَّزَ: ہوشیار کیا جانا۔ اِسْتَوْفَزَ: گھات میں بیٹھنا، پریشانی، تشویش یا امید و بیم کی حالت میں ہونا، تیار ہونا، چوکس ہونا۔ مُسْتَوْفِز: چوکس، چوکنا، ہوشیار، مستعد، صاف، واضح، تیز (ذہن) برانگیختہ، مشتعل، جوش میں، گھبرایا ہوا، پرجوش۔ کان علی اوفاز: کمر بستہ ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا۔

وفض: ا۔ وَفَضَ يَفِضُ وَفْضاً و وَفَضاً و أَوْفَضَ ايفاضاً: تیز چلنا، دوڑنا۔ اِسْتَوْفَضَ اِسْتِيفَاضاً: تیز چلنا، دوڑنا۔ ـــ ہُ: سے جلدی کرانا۔ الوَفْض و الوَفَض (مص): جمع اَوفاض: جلدی، عجلت۔ الوَفْضَة جمع وِفَاض: اسم مرہ۔

۲۔ اَوْفَضَ اِيفاضاً ہُ: کو دھتکارنا۔ ـــ الإبلَ: اونٹوں کو جدا جدا کرنا۔ اِسْتَوْفَضَ اِسْتِيفَاضاً تِ الإبلُ: اونٹوں کا بکھرنا۔ ـــ ہُ: کو دھتکارنا، جلاوطن کرنا۔ الأَوْفَاض: لوگوں کی مختلف جماعتیں۔

۳۔ اَوْفَضَ اِيفاضاً للرجُلِ: کے بیٹھنے کیلئے فرش بچھانا۔ الوِفاض جمع وُفُض: چکی کے نیچے رکھنے کا چمڑہ، پانی روکنے کی جگہ۔ الوَفْضَة جمع وِفاض: چمڑے کا ترکش، گڈریئے کا تھیلا، اوپر کے ہونٹ پر مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔

ب وَفَضَ يَفِضُ وَفْضاً: دوڑنا، جلدی کرنا، جلدی چلنا۔ وَفْضَة جمع وِفاض: چمڑے کا تھیلا، سفری تھیلا۔ خالي الوِفاض: خالی، خالی ہاتھ، فارغ۔

وفع: الوَفْع جمع اَوْفاع: بلند عمارت یا جگہ۔ غلامٌ وَفَعٌ جمع وِفْعان و وَفَعَةٌ و أَفَعَةٌ: نوجوان لڑکا۔ الوَفْعَة: کھجور کے پتوں کی ٹوکری۔ ـــ والوِفَاع: شیشی کا ڈاٹ۔ الوَفِيعَة: بمعنی الوَفْعَة: قلم صاف کرنے کا چیتھڑا۔

وفق: وَفِقَ يَفِقُ وَفْقاً الأمرَ: کو موافق پانا۔ ـ الأمرُ: مراد کے موافق ہونا۔ وَفَّقَ الامرَ: کو موافق بنانا۔ ـــ بين القوم: قوم کے درمیان اصلاح کرنا۔ ـــ ہُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو درست کرنا۔ ـــ ہُ اللّٰهُ للخير: اللہ تعالیٰ کا کسی کو خیر کا الہام کرنا۔ وُفِّقت له: وہ مجھ سے ملا۔ وَافَقَ وِفَاقاً و مُوَافَقَةً ہُ: کو ملنا، کو پانا۔ ـــ ہُ في او علی الشيء: کسی بات وغیرہ میں کسی سے موافق ہونا۔ ـ بين الشيئين: دو چیزوں کو جوڑنا۔ اَوْفَقَ القومُ لهُ: کے قریب ہونا، پر اتفاق کرنا، (کہا جاتا ہے: اُوفِقَ لزيدٍ لِقاؤُنا: ہماری زید سے ملاقات اچانک اور اتفاقیہ تھی، زید ہمیں اچانک اور اتفاقاً ملا)۔ ـ السهمَ و بالسهم: تیر چلانے کے لئے فوق کو تانت پر رکھنا (گویا یہ افوق کا الٹ ہے)۔ تَوَفَّقَ: کی کوشش بارآور ہونا، اللہ تعالیٰ سے توفیق و مدد پانا۔ (کہا جاتا ہے: لا يَتَوَفَّقُ عبدٌ الا بتوفيق اللّٰه: کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کرتا)۔ تَوَافَقَ القومُ فی الأمر: پر اتفاق کرنا، ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اِتَّفَقَ الرجلانِ علی الشيءِ و فيه: پر اتفاق کرنا، باہم قریب ہونا، متحد ہونا۔ ـ مَعَهُ: سے موافقت کرنا۔ ـ الأمرُ: اتفاقیہ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

طور پر واقع ہونا۔ اِسْتَوفَقَ اسْتِيفاقاً اللّٰهَ: اللّٰہ تعالیٰ سے توفیق چاہنا۔ الـوَفْـق (مص): دو چیزوں کے درمیان مطابقت، بقدر کفایت۔ (کہا جاتا ہے: کسْبُهُ وَفْقُ عِيالِهِ: اس کی کمائی اس کے اہل وعیال کیلئے کافی ہے۔ جَاءَ القومُ وَفْقاً: لوگ اتفاق سے آئے۔ اتَيْتُهُ وَفْقَ طَلَعَ الشمسُ: میں اس کے پاس طلوع آفتاب کے وقت آیا)۔ الـوَفِيـق: رفیق۔ التَوفيق (مص)۔ تـوفيقُ الهلال و توافقه و تِيفاقُهُ و تَوَفُّقُهُ و تِيفاقُهُ و تَيْفاقُهُ و مِيفاقُهُ: نئے چاند کا پہلا ظہور۔ المُوَفَّق (مفع): کہا جاتا ہے: اِنّ فلاناً مُوَفَّقٌ: فلاں نیک آدمی ہے۔ سچائی کے راستہ پر ہے۔

۲ وَفِقَ يَفِقُ وَفْقاً: صحیح ہونا، مناسب ہونا، موزوں ہونا، فٹ ہونا، برمحل ہونا، ٹھیک ہونا۔ وَفَّقَ ہ: کو ٹھیک بنانا، موزوں بنانا، مناسب بنانا، کو مطابق کرنا، موافق کرنا، اہل بنانا، کو ترتیب دینا، ٹھیک ٹھاک کرنا۔ ـــ بین: مختلف چیزوں کو موافق بنانا، ہم آہنگ بنانا، دو چیزوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ ـــ بین ـ و بین: میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ ـــ بین: دو فریقوں میں مصالحت کرانا، دوبارہ عام تعلقات قائم کرنا، صلح کرانا، جھگڑا چکانا۔ ـــ ہ ل یا اِلی: اللّٰہ تعالیٰ کا کسی کو کسی چیز کے حصول میں کامیابی عطا کرنا۔ وُفِّقَ الی یا ل: سے یا میں کامیابی حاصل کرنا، کامیاب ہونا۔ ـــ اِلی: میں خوش قسمت ہونا، میں کامیاب ہونا۔ وُفِّقَ كُلَّ التوفيق الی: میں مکمل طور پر کامیاب ہونا، ہر کامیابی حاصل کرنا۔ وَافَـقَ ہ: کیلئے موزوں ہونا، کو زیب دینا، موزوں ہونا، سجنا، پھبنا، کی ضرورتوں کے لئے کافی ہونا، کے شایانِ شان ہونا، کے لئے قابل قبول ہونا، کو پسند کرنا، ماننا، کے لئے سازگار ہونا، موافق اور مناسب حال ہونا، کی خواہشوں یا مفادات سے ہم آہنگ و موافق ہونا، (لباس کا) کسی کو پھبنا، سجنا، فٹ ہونا۔ ـــ ہ یا ہ فی یا علی: سے میں اتفاق کرنا، متفق ہونا۔ ـــ ہ علی یا فی: سے میں متفق ہونا، یکدل یک آواز یا ہم رائے ہونا۔ ـــ ہ: کو لگانا، جڑنا، سے موافق یا ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا، کا جوڑا ہونا، کے برابر ہونا، کے مشابہ ہونا (خوراک آب وہوا کا) کو راس آنا، موافق آنا، کے لئے خوشگوار ہونا، صحت بخش ہونا، منفعت بخش ہونا، کا باعث ہونا۔ ـــ علی: سے متفق ہونا، کو مان لینا، کو ہاں کہہ دینا، کی تائید کرنا، پر صادر کرنا، کو منظور کرنا، کی منظوری دینا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا، کی اجازت دینا، کا اختیار دینا، کا لائسنس دینا۔ ـــ بین: ایک چیز کو دوسری کے مطابق بنانا، بدلنا، دو چیزوں کو ہم پلہ کرنا، ہم وزن کرنا، ملتا جلتا بنانا، میں توافق پیدا کرنا، میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ تَـوَفَّـقَ: اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پا جانا، کامیاب ہونا۔ اِتَّـفَـقَ: متفق ہونا، اتفاق کرنا، یکدل ہونا، یک آواز ہونا۔ ـــ مع یا و: سے اتفاق کرنا، متفق ہونا، ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا، سے موافق ہونا۔ ـــ علی: پر اتفاق کرنا، کا انتظام کرنا۔ ـــ علی مع: کے بارے میں کسی کے ساتھ سمجھوتہ کرنا۔ ـــ ل: کو اتفاقیہ پیش آنا، کو (غلطی یا فروگذاشت وغیرہ) کرنے کا اتفاق ہونا، عمل میں ہونا، واقع ہونا، پیش آنا، غیر متوقع طور پر واقع ہونا، کا عادی ہونا، کے لئے مقدر ہو چکنا۔ كَمَا اتفق: یونہی، بے سوچے سمجھے، اتفاق سے، بے پروائی سے۔ كَيْفَمَا اتفق: جو ہو، کیا ہی آخر کار ہو، کیسے ہی کیوں نہ ہو، بہرحال، کسی نہ کسی طرح، بہرصورت، تاہم، پھر بھی، ہر صورت میں۔ وَفْق: کافی رقم، کافی مقدار، اتفاق، مطابقت، موافقت، مناسبت، تعمیل، ہم آہنگی، اتحاد۔ وَفْقَ یا وَفْقاً لِ یا عن وفقِ: کے مطابق، کی تعمیل میں، کے ہم مقدار، کے حسب حال، کے مناسب، کے اتباع میں، کی تقلید میں، کی بنیاد پر، کے باعث، کی سند سے۔ وفقَ الأصل: صحیح (نقل)۔ اجر بالوَفْقَةِ: کام کے مطابق مزدوری۔ اَوْفَـق: زیادہ موزوں، مناسب، زیادہ صحیح، زیادہ ٹھیک، زیادہ برجستہ، زیادہ برمحل۔ تـوفيـق: ڈھانچہ، بناوٹ، ساخت، مطابقت، مناسبت، موافقت، تصرف، گنجائش، موازنہ کرنا، ہم آہنگی، ترتیب، تصفیہ، صلح، مصالحت، ثالثی، مصالحت کی کوشش، تحکیم، صلح کرانا، جھگڑا چکانا، معمول کے تعلقات، کو دوبارہ قائم کرنا (اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ) کامیابی، اچھا نتیجہ، خوش نصیبی، اقبال مندی، بہرہ مندی، کامیابی۔ لَجْنَةُ التوفيق: ثالثی کونسل، مجلس تحکیم۔ وِفَاق: مناسبت، موافقت، مطابقت، میل، مشابہت، اتحاد، ہم آہنگی، اتفاق، اجازت، منظوری، رضامندی، معاہدہ، اقرار، عہد، عہد نامہ۔ وفاقاً لِ: کے مطابق، کی خواہش کے مطابق، حسب خواہش، کی بنیاد پر، کی سند سے، پسند، کے باعث، کی اتباع میں، کی تقلید میں۔ مُـوَافَـقَة: اتفاق، موافقت، مطابقت، تعمیل، پیروی، لگاؤ، ربط و ضبط، تناسب، نسبت، ایک جیسا ہونا، موزونیت، مناسبت، درستی، قابلیت، صلاحیت، منظوری، رضامندی، پسندیدگی، خوشنودی، جواز، اجازت، ہم ـ تَوَافُق: اتفاقی مطابقت، بیک وقت وقوع، زمانی مطابقت، التزام، موزونیت، موافقت، میل ملاپ، رضامندی، سمجھوتہ، مفاہمت، اقرار نامہ، راضی نامہ، ہم خیالی، اتفاق رائے، ہم آہنگی، تال میل، مطابقت، مشابہت۔ اِتِّـفَـاق: اتفاقی مطابقت، زمانی مطابقت، بیک وقت وقوع التزام، موزونیت، موافقت، اتفاق، میل، موافقت، مطابقت، مشابہت، رضامندی، سمجھوتہ، مفاہمت، جمع اتفاقات: معاہدہ، عہد و پیمان، قول وقرار، قرارداد، ٹھیکہ، ٹھیکے کا معاہدہ، اتفاق رائے، سمجھوتہ، سلطنتوں کی دوستی۔ اتـفـاقـاً: اتفاقاً، اتفاق سے، اچانک، غیر ارادی طور پر، اتفاقیہ طور پر، بـالاتـفـاق: (باہمی) اتفاق سے، ہم آہنگی سے، قول وقرار کے مطابق۔ اتـفـاقُ الآراء: کامل اتفاق رائے۔ بـاتـفـاق الآراء: کامل اتفاق رائے سے۔ اتـفـاقُ عـدمِ الاعتـداء: عدم جارحیت کا معاہدہ۔ دولُ الاتـفـاقِ الصغير: چھوٹی سلطنتوں کی دوستی کے ممالک۔ اِتِّـفـاقی: اتفاقی، ناگہانی، غیر ارادی، نامتوقع، رواجی، رسمی تقلیدی، رواج پر مبنی۔ اِتِّـفـاقِيَة جمع اِتِّـفـاقـيـات: معاہدہ، تراضی۔ مُـوَفَّـق: کامیاب، خوش قسمت، اقبال مند۔ مُوَافِق: ہم ساز، ہم نوا، ہم آواز، موزوں، مطابق، مشابہ، موافق، مناسب، ٹھیک، یک رنگ، ملتا جلتا، یکساں رو، ہم آہنگ، ہم رنگ، ہم راگ، اتنا ہی، مماثل، متساوی، خوش اطوار، خوشگوار، دلپذیر، سہانا، قابل قبول، آسان، مفید، معقول، آرام دہ، طرفدار، مہربان، فائدہ مند، مفید مطلب، امید افزا، پسندیدہ، ساز گار، سعید، مبارک، مسعود، باعث، ممد، مائل۔ مُتَـوَفِّق: کامیاب، اقبال مند، خوش قسمت۔ مُتَّـفَـق عليه: جس پر اتفاق کیا گیا ہو۔

وفل: ۱۔ وَفَـلَ يَـفِـلُ وَفْلاً و وَفَّلَ توفيلاً الشيءَ: کو چھیلنا۔ الوَفْل (مص) تھوڑی چیز۔

۲۔ وَفَّلَ تو فيلا الشيَ: کو پس انداز کرنا۔

وفـه: وَفَـهَ يَفِهُ وَفْهاً النصرانيُّ: گرجے کا ناظم ہونا۔ الـوافِه: گرجے کا ناظم، ثالث۔ الـوِفَاهَة: گرجے کے ناظم کی تنخواہ یا اس کا فریضہ۔ الـوَفْهِيَّة: گرجے کے ناظم کا رتبہ۔

وفی: ۱۔ وَفَـى يـفـي وَفَـاءً بالوعد او العهد: وعدہ یا عہد پورا کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ ـــ النذرَ: نذر پوری کرنا۔ ـــ الشيءُ: دراز ہونا۔ (مات فلانٌ و انت بِوَفَاءٍ: فلاں شخص مرگیا جب کہ تیری عمر لمبی ہو)۔ ـــ ريشُ الجناح: بازوؤں کے پروں کا پورا ہونا۔ ـــ وُفِيّاً الشيءُ: کامل ہونا، بہت ہونا۔ ـــ الدِرهَمُ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

المثقالَ: درہم کا مثقال کے برابر ہونا، ہم وزن ہونا۔ کہا جاتا ہے: هذا الشيءُ لايفي بذاك: یہ چیز اس کے برابر نہیں۔ وَفَّي توفِيةً الرجُلَ حَقَّهُ: کو حق پورا دینا۔ وَافَي مُوَافاةً فلاناً حقّهُ: کو حق پورا دینا۔ ــ الرجُلَ: کے پاس آنا، کے پاس یک بیک آنا۔ ــ ہ الحِمَامُ او الكتابُ: کو موت آجانا، یا کے پاس خط آنا۔ اَوْفَي ايفاءً بالوعد: وعدہ پورا کرنا۔ ــ النذرَ: نذر پوری کرنا۔ ــ ب الكيل: پیمانہ پورا ناپنا۔ ــ فلاناً حقّهُ: کو حق پورا دینا۔ ــ المكانَ: جگہ میں آنا۔ توَفَّي توَفِّيًا: پورا دیا جانا۔ ــ حَقَّهُ: حق پورا لینا۔ (کہا جاتا ہے: تَوَفَّيتُ مِن فلان ما لي عليه: میں نے فلاں شخص سے اپنی وہ چیز پوری کی پوری لے لی جو اس پر واجب تھی۔) ــ المدَّةَ: مدت کو پہنچنا۔ ــ الشيءَ: کو مکمل کرنا۔ ــ عددَ القومِ: پوری قوم کو گننا۔ ــ ہُ اللهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو موت دینا۔ تُوُفِّيَ فلانٌ: کی روح قبض کیا جانا اور اس کا مر جانا۔ المُتَوَفِّي: وفات دینے والا (اللہ تعالیٰ) المُتَوَفَّي: وفات پانے والا (بندہ) تَوَافَي تَوافِياً القومُ: تمام قوم آگئی۔ إِسْتَوْفَي إستيفاءً حقَّهُ: حق پورا لینا۔ الوَافِي (فا) مونث: وَافِية: ایک درہم اور چار دانق۔ ــ عند الشعراء: وہ شعر جس کے اجزاء پورے ہوں۔ الوَفِّي جمع اَوْفِياء: پورا، کامل، بہت وفا کرنے والا، حق دینے والا، حق لینے والا۔ الوَفَاء (مص): کہا جاتا ہے: مات عن وَفاءٍ: وہ مرگیا اور اس قدر مال چھوڑ گیا کہ حقوق واجبہ ادا ہو سکیں۔ ماتَ و انت بوفاءٍ: وہ مرگیا۔ تو پوری عمر زندگی گزارے۔ الوَفاة جمع وَفَيات: موت۔ المِيفاء: وفا کرنے والا۔

۲- اَوْفَي إيفاءً على المكان: جگہ کو اوپر سے جھانکنا۔ ــ على المئة: سو سے زائد ہونا۔ ــ على الشيءِ و في الشيءِ: کو اوپر سے جھانکنا۔ الوَفي و المِيفاة: زمین کا اونچا حصہ۔ المِيفَي: زمین کا اونچا حصہ، تنور کا ڈھکنا، اینٹوں کا بھٹہ یا آوا۔

◌ وَفَي يفي وَفِيًّا: کامل ہونا، مکمل ہونا، پورا، پورا ہونا، کل ہونا، جزو اہم ہونا۔ ــ وَفاءً ہ یا ب: وعدہ، قسم، عہد وغیرہ پورا کرنا، کی تلافی کرنا، (حکم) بجالانا (حکم کی) تعمیل کرنا، پر عمل کرنا، کو نبھانا۔ ــ ب: (خواہش آرزو) پوری کرنا، (ضرورت، حاجت) فراہم کرنا، پوری کرنا، (مطلب و مقصد) براری کرنا، (مقصد) پورا کرنا، (قرض وغیرہ) پورا کرنا۔ ــ (قرض) ادا کرنا، (وعدہ، عہد و پیمان، حلف، قسم) پورا کرنا، (اخراجات وغیرہ) کے لئے کافی ہونا۔ ــ ب: کے لئے کافی ہونا، کی پوری طرح تلافی کرنا، مقابل میں اپنا وزن رکھنا، کے برابر ہونا، مساوی ہونا، کا کام پورا کرنا، کا قائم مقام ہونا، کو مکمل طور پر حاصل کرنا، بجا لانا۔ وَفَّي ہ: کو معیار کے مطابق کرنا، مکمل کرنا۔ ــ ہ ہ: کو کچھ پورا پورا دینا، کو اس کا پورا حصہ لینے دینا۔ ــ ہ: (کسی موضوع کو) مکمل طور پر پیش کرنا، یا اس پر لکھنا یا کہنا۔ وافاہ: کے پاس آنا، کے سامنے آنا، ظاہر ہونا، کی موجودگی میں آنا۔ ــ ہ ب: کے پاس کچھ لانا، کے پاس کچھ لیجانا، کو کچھ دینا، کو کچھ مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ ــ ہ: کی خواہش پوری کرنا، کی درخواست کے مطابق کام کرنا، کی درخواست پر عمل کرنا۔ وافاہ اجلُهُ: کو اس کی موت نے اچانک آلیا۔ اَوْفَي: پورا دینا۔ ــ ہ یا ب: کو پورا کرنا، کی توقع کے قریب قریب ہونا۔ ــ علی: کے قریب آنا، کے قریب ہونا، کے پاس آنا، کے نزدیک جانا، کی حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا، سے ماورا ہونا، بلندتر ہونا۔ اَوْفَي عَلَي الانتهاء: ختم ہونا۔ عمرُهُ الآن قد اَوْفَي علي التاسعة: وہ نو سال کی عمر سے تجاوز کر چکا ہے۔ تَوَفَّي ہ: کو جبراً پورا پورا وصول کرنا، سے اپنا پورا حصہ لینا، کو پورا پورا وصول کرنا۔ تَوَفَّاہُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس لے گیا۔ تُوُفِّيَ: مرنا۔ تَوَافَي: کامل ہونا، پورا ہونا۔ ــ علی: کا اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا، کے حق میں بالاتفاق فیصلہ کرنا۔ إسْتَوْفَي ہ: کو پورا لینا، کو جبراً پورا لینا۔ ــ ل ہ: کو کچھ پورا پورا دینا، کو کسی چیز میں سے پورا حصہ دینا۔ ــ ہ: کو مکمل کرنا، کو آخری صورت دینا، کو پورا کرنا، نبھانا، (کسی کھیل یا پروگرام میں) آخر تک بیٹھنا، یا اسے آخر تک سننا، کی پوری قیمت ظاہر کرنا، کسی موضوع کو مکمل طور پر پیش کرنا، اس پر مکمل طور پر لکھنا، کہنا۔ جامع یا مکمل بحث کرنا، کو تفصیل سے پیش کرنا۔ ــ ہ: (شرط) پوری کرنا۔ ــ: پورا معاوضہ، تاوان، ہرجانہ وصول کرنا۔ وفاء: پورا کرنا (وعدہ) پورا کرنا، (فرض) بجالانا، (قرض) ادا کرنا، توازن، پاسنگ، معاوضہ، وفاداری، خیر خواہی، ایمانداری، دیانت داری، راستی، اصل کے مطابق ہونا، خلوص، نمک حلالی، اطاعت شعاری، خیر خواہی، فرمانبرداری، اطاعت، انقیاد، تکمیل، سرانجامی، وصولی، حصول۔ وفاءً ل: کی تکمیل میں، کو پورا کرتے ہوئے، کی بجا آوری میں، کی تعمیل میں، کی ادائیگی میں، کے رد عمل کے طور پر، کی تلافی کے طور پر، کے معاوضہ کے طور پر۔ احتفظ بالوفاء لِ: کا وفادار رہنا۔ یوم وفاء النیل: دریائے نیل کے سیلاب کا دن، (دریائے نیل میں سیلاب آنے پر مصر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔) وَفاة جمع وَفَيات: موت، وفات کا سرٹیفکیٹ۔ كثرةُ الوفيات: اموات کی اونچی شرح۔ وَفِي جمع اوفياء: وعدہ یا قول پورا کرنے والا، باوفا (عاشق) قابل اعتماد، کامل، مکمل، پورا، تمام، کل، کل شیَ، کل عدد۔ اَوْفي: زیادہ وفادار، زیادہ باوفا، زیادہ کامل، انتہائی مکمل۔ ــ ب: کسی مقصد کو بہتر طور پر پورا کرنے والا، خواہش وغیرہ کو بہتر طور پر پورا کرنے والا۔ مُوَافاة: آمد۔ ــ ب: پیغام رسانی، اطلاع۔ قادِرٌ علي الايفاء: قرضے ادا کرنے کے قابل۔ استيفاء: قرض خواہ کی طرف سے واجب الادا ادائیگی کی قبولیت، پورا کرنا، تکمیل، جامع پیش کش، تحریر یا تقریر یا علاج، ادائیگی، تعمیل، تکمیل، عمل، کام، کمال فن، بجا آوری، اتمام۔ وافٍ: ایماندار، مومن، وفادار، کامل، مکمل، پورا، ایک حد تک کافی، کافی، بہت، بافراط۔ مُوَفٍّ: مکمل کرنے والا۔ في الموفي عشرين (ثلاثين) من الشهر: مہینہ کے بیسویں (تیسویں) دن۔ مُتَوَفًّي: مرنے والا، مرحوم۔

وق: وَقْوَقَ الكلبُ: کتے کا بھونکنا۔ ــ الطائِرُ: پرندے کا چہچہانا۔ الوَقْوَق (ح): وہ پرندہ جو اپنے انڈے دوسرے پرندے کے گھونسلے میں رکھ دیتا ہے اور خود نہیں سیتا۔ الوَقْواقة من الرجال: بکواسی مرد۔ امراة وقواقة: بکواسی عورت۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ وَقْوَقَ فلانٌ: بکبک کرنا صفت مذکر: وَقْوَاق صفت مؤنث: وَقْوَاقة۔

۲- وَقْوَقَ الرجُلُ: کمزور ہونا۔ الوَقْوَاق: بزدل۔

◌ وَقْوَاق اور وَاقْوَاق: عرب جغرافیہ دانوں کے مطابق یہ جزیروں کے دو مختلف مجموعوں کے نام ہیں، ایک ان میں سے چین کے مشرق میں اور دوسرا بحر ہند میں واقع ہے۔ وَقْوَق: کوئل نما پرندہ، کوکو۔ ککو۔

وقب: ا- وَقَبَ يَقِبُ وَقْباً: گڑھے میں داخل ہونا۔ ــ وَقْباً و وُقُوباً ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونا۔ ــ الظلامُ: تاریکی کا پھیلنا۔ ــ القمر: چاند کا گہن میں آنا۔ ــ الرجُلُ: دھنسی ہوئی آنکھوں والا ہونا۔ ــ تِ عيناهُ: کی آنکھوں کا اندر کو دھنسی ہوئی ہونا۔ اَوْقَبَ ايقاباً الشيءَ: کو پتھر کے گڑھے میں داخل کرانا۔ القِبَة جمع قِبات: اوجھ کا پرت والا حصہ۔ الوَقْب (مص) جمع وُقُوب و وِقاب: پتھر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے، روشندان، جسم کا ہر گڑھا جیسے آنکھ کا گڑھا، کندھوں کا گڑھا۔ الوَقْبَة: پتھر یا جسم کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

گڑھا، بڑا روشندان، تیل اور یخنی وغیرہ کا گڑھا۔ رَكِيَّةٌ وَقْبَاء: گہرے پانی کا کنواں۔ الأَوْقَاب: گھر کا سامان۔ المِيقَاب: بڑا شرابی۔ کہا جاتا ہے: انهم يسيرون سَيْرَ الميقاب: وہ دن رات برابر چلتے ہیں۔ المِيقَب: گھونگھا، سنکھ، صدف، سیپی، خرمہرہ۔

۲۔ وَقَبَ يَقِبُ وُقُباً الرحلُ: آنا۔

۳۔ أَوْقَبَ إيقاباً: بھوکا ہونا۔

۴۔ أَوْقَبَ إيقاباً النخلُ: کھجور کی چھوٹی ٹہنیوں کا بدبودار ہونا۔

۵۔ الوَقْب جمع أَوْقَاب: احمق، کمینہ۔ الوَقْبَان جمع وَقْبَى: احمق۔ المُوقْبِيّ: بیوقوفوں کی صحبت کا شوقین۔

○ وقب جمع أَوْقَاب: گڑھا، سوراخ، حلقہ چشم۔ وَقْبٌ: گڑھا۔

وقت: وَقَتَ يَقِتُ وَقْتاً الأمرَ: کام کرنے کے لئے وقت مقرر کرنا۔ وَقَّتَ الأمرَ: کام کرنے کے لئے وقت مقرر کرنا، کام کی مدت کا تعین کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَقَّتَ الأَمْرَ لِيَومِ كذا: کام کو کسی دن تک ملتوی کرنا۔ الوَقْت (مص) جمع أَوْقَات: وقت، زمانہ کا اندازہ۔ اوقاتُ السنة: سال کی فصلیں۔ المَوْقِت: وقت کی تعیین، تعین کا زمانہ، تعین کی جگہ۔ المُوَقِّت: وقتوں کا اندازہ رکھنے والا۔ وَقْتٌ مَوْقُوتٌ و مُوَقَّتٌ: مقررہ اور محدود وقت۔ المِيقَات جمع مَوَاقِيت: وقت، وعدہ، جس کے لئے وقت مقرر کیا گیا ہو، کبھی اس جگہ کو بھی میقات کہا جاتا ہے جہاں ملاقات کے لئے وقت مقرر کیا گیا ہو۔

○ وَقَّتَ ہ: کیلئے وقت مقرر کرنا، کا دیے گئے وقت کے لئے جدول یا گوشوارہ بنانا، کو وقت پر کرنا، کیلئے وقت کی حد مقرر کرنا۔ وقت جمع اوقات: وقت، وقت کا امتداد، وقفہ، مدت، عرصہ، لحہ، آن، گھڑی، لحظہ۔ وقتاً: ایک بار، ایک مرتبہ، ایک دفعہ، ایک وقت پر، ایک دن۔ بوقتِه: فی الفور، فوراً۔ في وقتِه: وقت پر، صحیح وقت پر، بروقت۔ في غيرِ وقتِه: غلط وقت پر، بے موقع، بے محل، قبل از وقت۔ في الوقت نفسه یا في نفس الوقت: اسی وقت، بیک وقت، ساتھ ہی۔ في اوّلِ وقتٍ: ان دنوں میں ایک دن، پہلی فرصت پر۔ للوقتِ یا لوقتِه: فوراً۔ لهذا الوقت: اس وقت۔ مَعَ الوقت: مناسب وقت پر، وقت کے دوران، تھوڑے عرصہ میں، عنقریب، رفتہ رفتہ۔ مِن وقتٍ لآخر۔ وقتاً فوقتاً۔ أوقاتاً اوقاتاً۔ وقتاً فوقتاً۔

في بعض الاوقات: بعض اوقات، گاہے گاہے۔ في كثيرٍ مِن الاوقات: اکثر، اکثر اوقات، بارہا، بسا اوقات، بیشتر، بار بار، کئی بار۔ وقتُ الفراغ: فرصت، فرصت کا وقت، ضرورت کے لئے اٹھا رکھا وقت، خالی وقت، فارغ وقت۔ الوقت المدني: اجتماعی وقت۔ وقت أوربا الوُسْطَى: یوروپ کا مرکزی وقت۔ اشارةُ الوقت: وقت کا اشارہ (ریڈیو)۔ وَقْتَئِذٍ: تب، اُس وقت۔ وَقْتَذاكَ: تب، اُس وقت۔ وَقْتَمَا: کے دوران میں، جب، جونہی کہ، جیسے ہی۔ وقتي: وقت کا، زمانی، زمانے کے متعلق، چندروزہ، عارضی، آنی جانی، دم بھر کا، چشم زدن میں۔ سریع الزوال، جلد گزر جانے والا، وقتیہ، فانی، ناپائیدار، ہنگامی، درمیانیں، درمیانی عرصہ کا، آن کی آن میں، پل بھر کا۔ وُقَيْتاً: کچھ عرصہ کے لئے، مختصر عرصہ کے لئے۔ تصويرٌ وقتيٌّ: فوٹو کھینچنے کے لئے کیمرہ کا لحہ بھر کیلئے روشنی ڈالنا (time exposure)۔ مَوْقِت جمع مَوَاقِت: مقررہ وقت، ملاقات کا وقت، (چاہنے والوں سے) وعدہ ملاقات۔ مِيقات جمع مَوَاقِيت: مقررہ وقت، تاریخ، مقررہ حد، آخری مدت، وقت، موسم، سال کا وقت، ملنے کی جگہ، وعدہ کی ملاقات کا مقام (جمع) روانگی اور آمد کے اوقات، ٹائم ٹیبل (time table)۔ مواقيتُ الاقلام: کاروبار کے اوقات۔ مواقيت الحج: حج کے اوقات و مقامات۔ توقيت: وقت کا شمار، وقت کا تعین، کسی کام کے اوقات۔ توقيتٌ صيفيٌّ: گھڑیاں آگے کرنے کا وقت۔ توقيتٌ مَحَلّي: مقامی وقت، لوکل ٹائم۔ في الساعةِ العاشرةِ حسبَ توقيتِ جرينتش: گرینج کے وقت کے مطابق دس بجے۔ موقوت: مقررہ، طے شدہ (وقت)، وقتی ہنگامی، وقت میں محدود، دیے گئے وقت کے لئے بنایا ہوا (جدول یا گوشوارہ)، وقتی فیوز والا (بم)۔ مُوَقِّت: وقت پر کرنے والا، وقت مقرر کرنے والا، وقت کا حساب رکھنے والا، کنٹرولر (controller)۔ مُوَقَّت و مُؤَقَّت: دیے گئے وقت یا ساعت کے لئے بنایا ہوا (جدول یا گوشوارہ) مقررہ، طے شدہ (وقت) (کسی وقت کیلئے) موثر، صرف کسی وقت کیلئے، زمانی، عارضی، وقتی، ہنگامی، آنی جانی، دم بھر کا، چشم زدن میں، ناپائیدار وقتی، برق یا گریز پا۔ مُوَقَّتاً: عارضی طور پر، عبوری دور میں، فی الحال۔ بصورةٍ موقّتة: عارضی طور پر، عبوری دور میں۔ حكومةٌ موقّتة: عبوری حکومت، عارضی حکومت۔

وقح: وَقُحَ يَقِحُ قِحَةً وَقَحَةً و وَقِحَ يَوْقَحُ وَقَحاً و وَقُحَ يَوْقُحُ وَقَاحَةً و وُقُوحَةً: بے حیا و بے شرم ہونا، برے کاموں پر دلیر ہونا۔ صفت: وَقِح۔ ـــ حافرُ الدابّةِ: کھر کا سخت ہونا۔ وَقَّحَ الحوضَ: حوض درست کرنا۔ ـــ حافرَ الدابة: جانور کے کھر کو پگھلی ہوئی چربی سے سخت کرنا۔ أَوْقَحَ واستَوْقَحَ الحافرُ: کھر کا سخت ہونا۔ تَوَقَّحَ واتَّقَحَ: بے حیا ہونا۔ تَوَاقَحَ: بے حیائی ظاہر کرنا۔ الوَقَاح جمع وُقُح و وُقَّح (مذکر و مؤنث دونوں کیلئے): بے شرم، بے حیا۔ حافرٌ وَقَاحٌ: سخت کھر۔ رَجُلٌ وَقِيحُ الوجه: بے شرم آدمی۔ المُوَقَّح (مفع): مصیبت زدہ۔ بعيرٌ مُوَقَّحٌ: کام سے ستایا ہوا اونٹ۔

○ وَقُحَ يَقِحُ قِحَةً و قَحَةً و وَقُحَ يَوْقُحُ وَقَاحَةً و وُقُوحَةً و وَقِحَ يَوْقَحُ وَقَحاً: بے شرم ہونا، بے حیا ہونا، گستاخ ہونا، ڈھیٹ ہونا۔ تَوَقَّحَ: بے شرم، بے حیا، گستاخ یا ڈھیٹ ہونا۔ ـــ علی: سے گستاخی سے پیش آنا، گستاخانہ اخلاق و عادات کا مظاہرہ کرنا۔ تَوَاقَحَ: بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، گستاخانہ انداز سے پیش آنا یا گستاخانہ رویہ اختیار کرنا۔ قِحَة: بے شرمی، بے حیائی، گستاخی، بدتمیزی، شوخ چشمی۔ وَقَاح: (مذکر و مؤنث) جمع وُقُح: بے شرم، بے حیا، گستاخ، بدتمیز، شوخ چشم، تیز، دلیر، من چلا، بے ادب۔ وَقِح: بمعنی وَقَاح۔ وَقِيح: بمعنی وَقَاح۔ وَقَاحَة و وُقُوحَة: بے شرمی، بیحیائی، گستاخی، بے ادبی، شوخ چشمی، شوخی، ہمت، جرأت، خوداعتمادی۔

وقد: ا۔ وَقَدَ يَقِدُ وَقْداً و وَقَداً و وُقُوداً و وَقَدَاناً و قِدَةً و اتَّقَدَ: چمکنا۔ ـــ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ کہا جاتا ہے: وقدت بكَ زِنادي: تیری وجہ سے میری مراد بر آئی۔ وَقَّدَ النارَ: آگ سلگانا، روشن کرنا، جلانا۔ أَوْقَدَ النارَ: آگ سلگانا، روشن کرنا، جلانا۔ کہا جاتا ہے: أَبْعَدَ اللّٰهُ دارَهُ و أَوْقَدَ ناراً أَثَرَهُ: اللہ تعالی اسے واپس نہ بھیجے۔ تَوَقَّدَ الكوكبُ: ستارہ کا چمکنا۔ ـــ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ اِستَوْقَدَتِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ الوَقْد و الوَقَد (مص): آگ۔ الوَقْدَة: ایک مرتبہ جلنا، سخت گرمی۔ الوِقَاد و الوَقِيد و الوَقُود: ایندھن۔ الوَقَّاد: اسم مبالغہ۔ كوكبٌ وَقَّادٌ: بہت روشن ستارہ۔ رجلٌ وَقَّادٌ: تیز طبع، ذہین۔ المَوْقِد جمع مَوَاقِد و المُسْتَوْقَد: چولہا۔ المَوْقِدَة: بھٹی، سٹوو (stove)۔ المُتَوَقِّد (فا): روشن، تیز طبع۔ زَنْدٌ مِيقادٌ: فوراً جل اٹھنے والی

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چقماق کی اوپر کی لکڑی۔

۲۔ القِدَة (اصل میں الوَقْد ہے): جس کی پیروی کی جائے۔ (اس معنی میں اصل قَدْو ہے۔ ان دونوں میں ہ واو سے بدل گئی ہے)۔

ج اوقدفيه النار: کوآگ لگانا۔ تَوَقَّدَه: کو روشن کرنا، جلانا، آگ لگانا۔ اِتَّقَدَ: (غصہ کا) بھڑکنا، (جوش کا) ابھرنا۔ اتَّقَدَ غيرةً (حماساً) على: کیلئے جوش سے بھڑکنا۔ وَقْد و وَقَدٌ: جلنا، احتراق، عمل احتراق، آگ، ایندھن۔ وُقْدَة: آگ، شعلہ۔ وِقاد: ایندھن۔ وَقَّاد: جلنے والا، شعلہ فشاں، آگ کا سا، یکدم بھڑک اٹھنے والا، زندہ دل، شگفتہ مزاج، مشتعل، چمکدار، روشن، تاباں، تیز طبع، ذہین: فروزاں، تابندہ، نور افشاں یا شعاع افشاں (ستارہ) (جمع وَقَّادُون): بھٹی میں ایندھن جھونکنے والا، بھٹی والا۔ وَقُود: ایندھن، ایندھن برائے موٹر وغیرہ۔ مخزنُ الوَقود: کوئلے کا گودام۔ وَقِيد: ایندھن۔ مَوْقِد جمع مَواقِد۔ چولہا، انگیٹھی، آتش دان، سٹوو (stove)، ریل انجن کا بائلر۔ مَوْقِدُ النار: مٹی کے تیل کا چولہا۔ ایقاد: روشن کرنا، جلانا، آگ لگانا۔ تَوَقُّد: جلنا، احتراق، عمل احتراق۔ اِتِّقاد: جلنا، احتراق، عمل احتراق۔ مَوْقُود: جلایا ہوا، روشن کیا ہوا، آگ لگایا ہوا، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا۔ مُتَوَقِّد: جلنے والا، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا، شعلہ زن، مبالغہ آمیز، روشن۔ مُتَوَقِّدُ الذهن: تیز، آتش مزاج، من موجی، خوش طبع، شگفتہ خاطر۔ مُتَّقِد: بھڑکتا ہوا، جلتا ہوا، جوش انگیز۔ مُسْتَوْقَد: چولہا، آتشدان، انگیٹھی، پانی گرم کرنیکا چولہا (geyser)۔

وقذ: ۱۔ وَقَذَ يَقِذُ وَقْذًا هُ: کو پچھاڑنا، پر مہلک ضرب لگانا صفت مفعولی: وَقِيذ و مَوْقُوذ۔ ــ هُ النُّعاسُ: پر نیند کا غلبہ ہونا۔ ــ ر اَوْقَذَ فلاناً: کو بیمار چھوڑنا۔ الوَقِيذ مونث وَقِيذَة جمع وَقائِذ: مہلک بیماری میں مبتلا، بوجھل، سست۔ وَقِيذُ الجَوانح: غمگین دل آدمی۔

۲۔ الوَقائِذ واحد وقيذة: بجھے ہوئے پتھر۔ المَوْقِذ جمع مَواقِذ: اطراف بدن جیسے ٹخنہ، گھٹنا، کندھا۔

وقر: ۱۔ وَقَرَ يَقِرُ و وَقِرَ يَوْقَرُ وَقْراً و وُقِرَتْ اُذُنُهُ: بہرہ ہونا، اونچا سننا۔ صفت: مَوْقُورَة: بہرا (کان) وَقَّرَ تَوْقِيراً للشيء: کے نشان بنانا۔ کہا جاتا ہے: وَقَّرَتْني الأسفار: سفروں نے مجھ کو مشاق بنا دیا۔ اَوْقَرَ اِيقاراً و قِرَةً (خلاف قیاس) الدابَّةَ: جانور پر بھاری بوجھ لادنا۔ ــ ت النخلةُ و اَوْقَرَتْ: کھجور کے درخت کا بہت پھلدار ہونا صفت: مُوقِر و مُوقِرَة و مُوْقَرَة۔ ــ الدَّينُ فلاناً: قرض کا کسی کو گراں بار کرنا۔ اِسْتَوْقَرَ اِسْتِيقاراً تِ الإبلُ: اونٹوں کا موٹا ہونا، بھاری بوجھ اٹھانا۔ ــ وِقْرَهُ طعاماً: کھانا لینا۔ القِرَة (مص) جمع قِرات: بوجھ، اہل و عیال، بیماری کا وقت۔ الوَقْر (مص): کہا جاتا ہے: في صدره وَقْرٌ: اس کے دل میں کینہ ہے۔ الوِقْر جمع اَوْقار: بھاری بوجھ، پانی سے بوجھل بادل۔ وَقْرَةُ الدهر جمع وَقَرات: زمانہ کی سختی و مصیبت۔ الوَقَرات: نشانات، آثار۔ الوَقِير: ذلیل، بے عزت۔ اذنٌ وَقِيرَةٌ: بہرا کان۔ المِيقارُ من النخل جمع مَواقِير: پھل سے لدا ہوا کھجور کا درخت۔ المُوَقَّر (مفع): تجربہ کار عقلمند، جہاندیدہ۔

۲۔ وَقَرَ يَقِرُ وَقْراً و وُقُورَةً في بيته: گھر میں وقار کے ساتھ بیٹھنا۔ ــ قِرَةً و وَقارَةً و وَقْراً و وَقُرَ يَوْقُرُ وَقارَةً و وَقاراً الرجُلُ: باوقار ہونا، ثابت رہنا۔ وَقَّرَ تَوْقِيراً الشيخَ: کی تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ ــ الدابَّةَ: جانور کو آرام دینا۔ تَوَقَّرَ و اِتَّقَرَ: باوقار ہونا۔ الوَقُور من الرجال: سنجیدہ، باوقار۔ القِرَة جمع قِرات: بہت بوڑھا۔ الوَقار: سنجیدگی، عظمت۔ ــ من الرجال: باوقار۔ الوَقُور جمع وُقُر: (مذکر و مونث): باوقار۔

۳۔ وَقَرَ يَقِرُ وَقْراً العظمَ: ہڈی کو پھاڑنا۔ وُقِرَ العظمُ: ہڈی کا پھٹنا۔ صفت: مَوْقُور و وَقِير۔ وَقَّرَ تَوْقِيراً فلاناً: کو زخمی کرنا۔ الوَقْر (مص) جمع وُقُور: پنڈلی کا شگاف، پتھر یا ہڈی وغیرہ میں گڑھا یا شگاف۔ الوَقْرَة جمع وَقَرات: اسم مرۃ، پتھر یا ہڈی میں گڑھا یا شگاف۔ الوَقِير: زخمی ہوئی ہڈی۔ ــ و الوَقِيرَة: چٹان کا بڑا گڑھا جو پانی روکتا ہے۔

۴۔ القِرَة جمع قِرات: بکریوں کا گلہ۔ الوَقَرِي: بکریوں اور بھیڑوں کا چرواہا یا ان کا جمع کرنے والا۔ الوَقِير: بکریوں کا گلہ، لوگوں کا گروہ۔ المَوْقِر: پہاڑ کے دامن کا میدان۔

ج وَقَرَ يَقِرُ وَقْراً ه: کوئی چیز خصوصاً ہڈی توڑنا، ترقنا۔ ــ: مسلمہ حقیقت ہونا، رہنا، ٹھہرنا۔ وقر في نفسه أن: اس کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی کہ۔ وَقَرَ في خَلَدِهِ: اس کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی کہ۔ وقرت الصورةُ في نفسه: اس کے ذہن کی آنکھ کے سامنے تصویر صاف کھڑی تھی۔ وَقُرَ يَوْقُرُ وَقاراً و وَقارَةً: سنجیدہ ہونا، متین ہونا، باوقار ہونا، باوجاہت ہونا، وجیہ ہونا۔ وَقَّرَهُ: کی عزت کرنا، کا احترام کرنا، کا عقیدت مند ہونا، کی تعظیم کرنا، کو سنجیدہ یا متین کرنا۔ اَوْقَرَهُ: جانور پر بوجھ لادنا، بہت بوجھ لادنا۔ ــ ه: کو کچلنا، پر ظلم کرنا، کو زیر کرنا، کو دبانا، پر بہت بوجھ ڈالنا۔ ــ: درخت کا پھلوں سے بہت زیادہ بوجھل ہونا۔ وَقْر جمع وُقُور: سوراخ، گڑھا، خلا، کھو۔ وَقْرَة: سوراخ، گڑھا، خلا، کھو۔ وِقْر جمع اَوْقار: بھاری بوجھ، بوجھ۔ وَقار: سنجیدگی، متانت، عظمت، پر احترام، رویہ، تحمل، باوقار وضع۔ وَقُور سنجیدہ، متین، باوقار، محترم، مقدس۔ تَوَقُّر: باوقار رویہ یا وضع۔ مُوَقَّر: محترم، معزز، بزرگ۔

وقس: وَقَسَ يَقِسُ وَقْسًا الجربُ في بدنه: خارش کا بدن میں پھیل جانا ــ الفاحِشَةَ: بری بات کا ذکر کرنا۔ ــ هُ بالمَكْرُوه: پر کسی ناگوار بات کا الزام لگانا۔ ــ الجلدَ: کھال چھیلنا۔ وَقَّسَ الابلَ: اونٹوں کو کھجلی لگانا۔ الأَوْقاس: اوباش لوگوں کا گروہ۔

وقش: ۱۔ وَقَشَ يَقِشُ وَقْشًا الرسمُ: نشان کا مٹنا۔

۲۔ وَقَشَ يَقِشُ وَقْشًا من فلان: سے بخشش پانا۔ ــ ر اَوْقَشَ لهُ بشيء: کو کچھ تھوڑا سا دینا۔

۳۔ تَوَقَّشَ: حرکت کرنا۔ الوَقْش: آواز، حرکت۔ ــ و الوَقَش: آگ سلگانے کی لکڑی کی چھٹیاں۔ الوَقْشَة و الوَقَشَة: آواز، حرکت۔

۴۔ الوَقْش: عیب۔ الأَوْقاش: اوباش۔

وقص: وَقَصَ يَقِصُ وَقْصًا عنقَهُ: کی گردن توڑ دینا۔ ــ تِ العنقُ: گردن ٹوٹنا۔ ــ ت به الدابَّةُ: جانور کا کسی کو گرا کر گردن توڑ دینا۔ ــ رأسَهُ: سر کو نیچے سے دبانا۔ ــ الشيءَ: کو عیب لگانا، گھٹانا۔ وَقِصَ يَوْقَصُ وَقَصًا: چھوٹی گردن والا ہونا۔ صفت: اَوْقَص مونث وَقْصاء جمع وُقْصٌ: کبھی گردن کی صفت کے طور پر بھی یہ لفظ آتا ہے اور کہا جاتا ہے: عَنَقٌ اَوْقَص و عُنُقٌ وقصاء: (چھوٹی گردن، کوتاہ گردن)۔ وُقِصَ الرَجُلُ: خراش شدہ گردن والا ہونا۔ صفت: مَوْقُوص۔ وَقَّصَ عنقَهُ: کی گردن توڑنا۔ ــ السبعُ: درندہ کا شکار کو لے کر کھانا۔ ــ على النار: آگ میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالنا۔ اَوْقَصَ هُ: کو کوتاہ گردن پیدا کرنا۔ تَوَقَّصَ البعيرُ: اونٹ کا دلکی چال چلنا۔ تَواقَصَ: چھوٹی گردن والے کی طرح ہونا۔ الوَقْص (مص): عیب۔ ــ في العروض: علم عروض کی اصطلاح میں حرف ثانی متحرک کو گرا دینا۔ الوَقَص (مص) جمع اَوْقاص: آگ سلگانے کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔ کہا جاتا ہے: اتانا اوقاصٌ من بني

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فلان ہمارے پاس فلاں قبیلے کے اراذل آئے۔ الوَقَاص: وقاقیص کا واحد، پرندوں کے شکار کا جال۔ کہا جاتا ہے: خذ اَوْقَصَ الطریقین دوراستوں میں سب سے چھوٹا راستہ اختیار کرو۔ یا قریب ترین راستہ اختیار کرو۔ الوَقِیصة الوقائص کا واحد، گردن کا منکا، شکار، عام لوگ اسے بدبودار مردار کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں: وَقَّصَ الطائرُ پرندہ نے مردار کھایا۔ المَوقُوص (مفع): ٹوٹا ہوا۔ ۔ في العروض علم عروض کی اصطلاح میں وہ وزن جس کا حرف ثانی متحرک گرا دیا گیا ہو۔ بعض کے نزدیک ایسا حرف متفاعلن میں ہوتا ہے، جو مفاعلن ہوجاتا ہے۔

Ⓒ وَقَصَ یَقِصُ وقصاً ہ کی گردن توڑ دینا۔

وقط: وَقَطَ یَقِطُ وَقْطاً ہٗ کو پچھاڑنا، کو مار کر ست کر دینا۔ وُقِطَ في راسه سر میں بوجھ محسوس کرنا۔ کہا جاتا ہے: اکلتُ طعاماً وقطني میں نے کھانا کھایا تو اس نے میرا سر بھاری کر دیا اور مجھے سلا دیا۔ وَقِّطَ الصخرُ: چٹان کا گڑھے والا ہونا۔ اِسْتَوْقَطَ استیقاطاً المکانُ: جانوروں یا انسانوں کے روندنے سے کسی جگہ گڑھا پڑ جانا۔ الوَقْط و الوَقِیطَة جمع اَوْقاط: وہ گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے۔ الوَقِیط جمع وِقاط و وُقْطان و اِقاط: وہ گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے ــــ جمع وُقْطَی و وَقاطَی مؤنث وَقِیط مار، بیماری یا شکم سیری کی وجہ سے ست، بے خوابی سے کسلمند۔

وقظ: وَقَظَ یَقِظُ وَقْظاً ہٗ: کو اتنا مارنا کہ وہ قریب المرگ ہو جائے ــــ علی الأمر کو مسلسل کرنا، پر جما رہنا۔ الوَقِیظ: جو اٹھ نہ سکے۔

Ⓒ وَقَظَ یَقِظُ وَقْظاً ہ: کو بہیمانہ طور پر مارنا۔ وَقَّظَ ہ: (جذبات وغیرہ) کو ابھارنا، اُکسانا، برافروختہ کرنا۔

وقع: وَقَعَ یَقَعُ وُقُوعاً الشیءُ من یدی: چیز کا ہاتھ سے گر جانا ــــ الحقُّ: ثابت ہونا ــــ القولُ علیھم: پر واجب ہونا ــــ ت الابلُ: اونٹوں کا بیٹھنا ــــ ت الدوابُّ: جانوروں کا بیٹھنا ــــ ربیع بالارض موسم خریف میں پہلی بارش برسنا، اس کے لئے سَقَطَ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ــــ الطیرُ علی شجرٍ او ارضٍ: پرندوں کا درخت یا زمین پر اترنا۔ صفت وُقُوعٌ و وُقَّعٌ۔ ــ في الشَرَكِ: جال میں پھنسنا ــــ في ارضٍ فلاةٍ: کھلی زمین میں داخل ہونا ــــ الرجُلُ في عمله: کام میں نرمی برتنا۔ ــ في العمل کام شروع کرنا ــــ الکلامُ في نفسه: کلام کا دل میں اثر کرنا ــــ الامرُ: حاصل ہونا۔ کہا جاتا ہے: وَقَعَ لَہٗ وَاقِعٌ: اس کو ایک حادثہ پیش آیا ــــ وُقُوعاً و وَقِیعَةً في فلان: کو گالی دینا، پر عیب لگانا، کی غیبت کرنا ــــ وَقْعاً اِلی کذا: کی طرف تیز تیز جانا چلنا ــــ من کذا او عن کذا: سے رکنا، ایک طرف ہونا ــــ النصلَ بالمِیقَعَةِ: پھل کو تیز کرنا۔ صفت مفعولی: وَقِیع۔ ــــ البعیرَ اونٹ کی رانوں کے کناروں پر گول داغ لگانا ــــ وَقْعاً و وَقْعَةً بالعدو: دشمن سے سخت مقابلہ کرنا، جنگ و جدال کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَقَعَ عند فلان مَوقعاً حَسَناً: سے حصہ و مرتبہ پانا۔ وقع الأمرُ منہ موقعاً حسناً او سیئاً: کی کے ہاں اچھی یا بری تاثیر ہونا۔ وَقَعَ موقعاً من کفایته: مالدار ہونا۔ فلانٌ یسفُّ ولا یقعُ: فلاں کام کے قریب جاتا ہے مگر کرتا نہیں۔ ھذہ نعلٌ لا تقع علی رحلی: یہ جوتا میرے پاؤں کے مناسب نہیں۔ وَقِعَ یَوْقَعُ وَقَعاً: ننگے پاؤں چلنا، زمین کی سختی یا پتھروں کی وجہ سے پیروں کا دُکھنا۔ صفت وَقِع۔ وُقِعَ في یدِہ: نادم ہونا۔ وَقَّعَ الوَبَرُ ظھرَ البعیر: پشم کا اونٹ کی پیٹھ پر نشان ڈالنا ــــ المطرُ الأرضَ: بارش کا زمین میں کہیں اُگانا کہیں نہ اُگانا، بارش کا زمین پر چھڑکاؤ کرنا ــــ العهدَ او الفرمانَ: عہد نامہ یا فرمان پر شاہی مہر لگانا ــــ الکتبَ او الصكَّ: تحریر یا چک کے نچلے حصہ پر دستخط کرنا ــــ الکاتبُ الکتابَ: کاتب کا تحریر سے فضول چیزوں کو حذف کرنا ــــ تِ الإبلُ: اونٹوں کا بیٹھنا ــــ ظنّہٗ علی الشيء: کسی چیز کا اندازہ کرنا ــــ علی فلان: پر رائے قائم کرنا ــــ الصیقلُ علی السیف: تلوار کو تیز کرنے کی طرف متوجہ ہونا ــــ الحجارةُ حافرَہٗ: پتھروں کا کھر کے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ــــ القومُ: آخر شب کو آرام کے لئے اترنا۔ وَاقَعَ وِقاعاً و مُوَاقَعَةً ہ: سے لڑائی کرنا ــــ الأمورَ: امور کے قریب ہونا اور ان کو کرنا۔ اَوْقَعَ اِیقاعاً ہٗ: کو واقع کرنا، گرانا ــــ بالعدو: دشمن پر ٹوٹ پڑنا ــــ بہ الشرَّ: کو بدی میں الجھا دینا ــــ الدھرُ بہ: زمانہ کا کسی پر مصائب ڈالنا ــــ ت الروضةُ: باغ کا پانی کو روک لینا ــــ المُغَنّي: موسیقار کا سر ٹھیک کرنا۔ تَوَقَّعَ الامرَ: کے حاصل ہونے کی امید کرنا۔ تَوَاقَعَ الاعداءُ: دشمنوں کا آپس میں لڑنا، ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِسْتَوْقَعَ الامرَ: کے حصول کا انتظار کرنا، سے خوف کھانا ــــ السیفُ: [illegible]

الوَاقِع جمع وُقَّع و وُقُوع (فا): طائرٌ وَاقِعٌ: درخت پر یا گھونسلے میں رہنے والا پرندہ۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ واقعُ الطیرِ: نرم مزاج کا آدمی۔ النسرُ الواقِع (فلك): ایک ستارہ کا نام جو قطب شمالی کے قریب ستاروں کے جھرمٹ کے نزدیک ہوتا ہے۔ الواقِعَة: الواقع کا مؤنث: لڑائی کا تصادم، مصیبت، قیامت۔ رجُلٌ واقِعَةٌ: بہادر آدمی۔ الواقِعِيّ: واقعیت پسند، حقیقت پسند، حقیقت نگار۔ الواقِعِیَّة: واقعیت پسندی، حیقت پسندی، حقیقت نگاری۔ الوَقْع (مص): واحدوقعة: چوٹ کی آواز (آپ کہتے ہیں: سمعتُ وَقْعَ حافرِ الدابة و وقع المطرِ: میں نے جانور کے کھر یا بارش کے گرنے کی آواز سنی) پہاڑ کی بلند جگہ، بارش کی امید دلانے والا بادل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ کہا جاتا ہے: لفلانٍ وقع عند الامیر: فلاں شخص کی حاکم کے ہاں قدر و منزلت ہے۔ الوَقَع (مص): واحدوَقَعَة: چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ الوَقِع: بارش کی امید دلانے والا بادل۔ الوَقْعَة جمع وَقَعات: وقع کا اسم مرہ، جنگ کا تصادم، آخر شب کی نیند، دن میں ایک بار کی قضائے حاجت، پرندے کا اترنا۔ وَقْعَةُ السیف: تلوار کا پڑنا ــــ عندالعامَةِ: ایک بار کا کھانا۔ الوِقْعَة: وقع کا اسم نوع۔ وِقَاع: گھوڑے کا گول داغ۔ الوَقَاعَة: زمین کی سختی جس کی وجہ سے پانی جذب نہ ہو۔ وِقاعَةُ الستر: زمین پر پردے کے پڑنے کی جگہ۔ الوَقَّاع والوَقَّاعَة: لوگوں کی غیبت کرنے والا۔ الوَقِیع جمع وُقُع: تیز کیا ہوا پھل، پتھروں سے رگڑ کھایا ہوا کھر، سخت جگہ جو پانی کو جذب نہ کرے۔ وَقِیعُ الرجُلِ: جس کے پاس کوئی شخص تو پناہ لینے آئے۔ وہ اسے کہتا ہے: انا وَقِیعُكَ: میں وہ ہوں جس کے پاس تو پناہ لینے آیا ہے۔ الوَقِیعَة جمع وِقَاع و وَقَائع: لڑائی کا تصادم، غیبت، پانی کا گڑھا۔ وقیعَةُ الطائر: پرندے کے اترنے کی وہ جگہ جہاں وہ اترنے کا عادی ہو۔ وَقَائِعُ العرب: عربوں کی لڑائیاں۔ الایقاع (مص): تال۔ التَوقِیعُ (مص) جمع تَوَاقِیع: اندراج، دستخط، رائے، تصور۔ توقیع السلطان: شاہی فرمان یا فیصلہ، شاہی مہر۔ المَوقِع جمع مَوَاقِع: گرنے کی جگہ، جائے وقوع۔ مَواقِع القطر: قطر کے حصے۔ مَواقِعُ القتال: جنگ کے مقامات۔ مَوقعَةُ الطائر جمع مَوَاقِع: پرندے کے اترنے کی جگہ۔ المُوَقِّع (فا): ہلکے قدم رکھنے والا، شاہی مہر کی حفاظت کرنے والا، فرمان شاہی کا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لکھنے والا۔المُوَقَّع (مفع): مصیبت زدہ، بہت چلنے والا راستہ، تیز کی ہوئی چھری۔المَوْقُوع (مفع): پتھروں سے رگڑ کھایا ہوا (کھر)۔قدمٌ مَوقُوعَة: مونا سخت قدم۔المِیْقَعَة جمع مَواقِع: ہتھوڑا، لکڑی کا پھٹا جس پر دھوبی کپڑے کوٹتا ہے، سان کا پتھر۔میقعۃُ الطائِر: پرندے کے اترنے کی مانوس جگہ۔

ن وَقَعَ یَقَعُ وُقُوعًا: گرنا، نیچے گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، واقع ہونا، ہونا، وقوع میں آنا، روپذیر ہونا۔ــل: کو پیش آنا، پر نازل ہونا۔ــ فی: میں پہنچنا (کسی صورت حال یا مشکل میں پہنچنا)۔ــ الی: کے پاس آنا۔ــ علی: سے ملنا، سے اتفاقاً ملنا، کو اتفاقاً پانا، سے اچانک مل جانا، کے حصہ میں آنا، (پرندے کا) کسی جگہ اترنا، آرام سے بیٹھنا، کسی عورت سے مجامعت کرنا۔ــ فی: میں تقسیم ہونا۔ــ فی: پر مشتمل ہونا۔ــ: واقع ہونا۔وقیعۃً ب یا فی: پر تہمت لگانا، کی چغلی کھانا، چغل خوری کرنا، کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، کی بدگوئی کرنا، ازالہ حیثیت عرفی کرنا، کی تحقیر کرنا، کو گھٹا کر دکھانا۔ــ وقعاً ب: پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا، پر حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا۔وقعوا فی بعضھم: ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑنا، جھگڑے لگنا۔وقع بایدیھم: کے ہاتھ آجانا۔وقع تحت حَواسِہِ: کے ادراک کی زد میں آنا، کو محسوس ہونا، پر واضح ہونا، قطعی ہونا۔وَقَعَتْ فی حبہ: سے محبت ہو جانا، سے عشق ہونا۔وَقَعَتْ حربٌ: جنگ یکا یک لگ جانا یا شروع ہونا۔وقع الحقُّ: قانون کا تعین ہونا۔وقع الحقُّ علیہ: مجرم پایا جانا، قصوروار پایا جانا۔وقع فی الفخ: جال میں آجانا، پھنسنا۔وقع فریستَہُ: کا شکار ہونا۔وَقَعَ مِن قلبہِ فی مکانٍ: کے دل کو لگنا، کا بیڑا اٹھانا، پر توجہ کرنا۔وقع القولُ علیہ: سے بولنے کا تقاضا کیا گیا، کو تقریر کرنے کا موقع دیا گیا۔وقع فی نفسہ أن: اس کے دل میں آیا، کو خیال آیا کہ۔وقع الکلام فی نفسہ: الفاظ نے اسے متاثر کیا۔وقعت فی (من) نفسہ: اس نے اس پر اثر ڈالا، اس نے اس پر جادو کر دیا، کو فریفتہ کر دیا۔وقع فی ھواھا: وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔وقع موقعَہُ: کی جگہ لینا، کی علامت ہونا، پر مشتمل ہونا، کی تائید کرنا۔وقع فی غیر موقعہ: غلط جگہ پر ہونا، (لفظ کا) غلط سیاق و سباق میں استعمال ہونا، غلط جگہ رکھا جانا۔وقع الکلام منہ موقعاً: الفاظ نے اسے متاثر کیا۔وقع الامر منہ موقعاً حسناً: معاملہ نے اسے بہت خوش کیا، کے لئے معاملہ انتہائی خوش آئند تھا۔وقع عندہ موقعَ الرِضَی: اسے اسکی منظوری ملی وہ بہت پسند کیا گیا۔وِقع فی النفوس موقعاً جلیلاً: دلوں پر سخت یا شاندار تاثر چھوڑنا۔وقع موقعَ الاستغراب: سخت تعجب کا باعث ہونا۔وَقَّعَ ہ یا ہ: کو گرانا، گرنے دینا، کا خاتمہ کرنا، کو شکست دینا۔ــ ہ: پر عمل کرنا، کو کرنا، کی تعمیل کرنا، کو بجالانا۔ــ ہ فی یا علی: کا میں یا پر اندراج کرنا، کو درج کرنا، رجسٹر کرنا، ریکارڈ کرنا۔ــ ہ: پر دستخط کرنا۔ــ ہ علی: (سزا) کسی کو دینا۔ــ علی: (کوئی ساز) بجانا۔ــ بین: میں یا کے درمیان اختلاف رائے، نزاع، ان بن یا نااتفاقی کا بیج بونا، کو آپس میں لڑانا۔وَقَّعَ حجزاً علی: کو گرفت کرنا، ضبط کرنا، کو قرق کرنا۔وَقَّعَہُ بالاحرف الاولی: پر مخفف دستخط کرنا۔وَقَّعَ نفسَہُ: اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کرنا۔وَقَّعَ علی الوتر الحسَّاس: حساس حصہ کو چھونا، حساس مقام پر انگلی رکھنا۔وَاقَعَ ہ: پر حملہ کرنا، سے لڑنا۔وَاقَعَ ھا: سے صحبت کرنا، مباشرت کرنا۔اَوْقَعَ ہ یا ہ: کو گرانا، کو گرنے دینا، کے گرنے کا باعث ہونا، کو نیچے گرانا، کو شکست دینا، کا خاتمہ کرنا، کو ختم کرنا۔ــ ہ فی: کو میں گھیرنا، کو کسی مشکل یا صورت حال میں مبتلا کرنا۔ــ ب: پر سختی سے حملہ کرنا، پر حملہ کرنا، ہلہ کرنا، دھاوا بولنا، پر ضرب لگانا۔ــ بین ــ و بین: کے مابین نااتفاقی کے بیج بونا، کو آپس میں لڑانا، کو ایک دوسرے سے متنفر کرنا۔اَوْقَعَ الرعبَ فی قلبہ: کو خوفزدہ کرنا، کے دل میں دہشت پیدا کرنا۔اَوْقَعَ عقوبۃً علی: کو سزا دینا۔اَوْقَعَہُ فی کمین: کو گھات میں بیٹھی ہوئی فوج یا کمین گاہ میں لیجانا۔تَوَقَّعَ ہ: کی امید کرنا، توقع کرنا، کا اندازہ کرنا، کیلئے اپنے آپ کو تیار کرنا، کا انتظار کرنا، سے دہشت کھانا، ڈرنا۔ــ علی: کو سزا ملنا، کے خلاف (فیصلہ کا) سنایا جانا۔استوقع ہ: کی امید کرنا، کی توقع کرنا، کا اندازہ کرنا، سے وحشت کھانا، ڈرنا، کے بارے میں بے چینی محسوس کرنا، تشویش کرنا، کی اندیشہ کے ساتھ امید کرنا۔وَقْع: گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، گر پڑنا، مکا، گھونسا، تھپڑ، بھد سے گرنا، ضرب، واقعہ، ہونا، روپذیر ہونا، وقوعہ، اثر، تاثر، اثر، تصادم، ٹکر، دباؤ۔وقع الأقدام: چاپ، آہٹ، نقش قدم۔وقع اقدامٍ ثقیلۃ: بھاری چاپ یا آہٹ۔کان لہٗ احسنُ وقعٍ فی النفوس: ہر ایک پر بہترین تاثر قائم کرنا۔وقْعَۃ: گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، پڑنا، بھد سے گرنا، مکا، گھونسا، تھپڑ، ضرب، صدمہ، ہچکولہ، واقعہ، ماجرا، ٹکراؤ، وقوع، جنگ و جدل، مڈبھیڑ، لڑائی، مقابلہ، معرکہ کارزار، خوراک، کھانا، ناشتہ، غذا۔وَقَّاع و وَقَّاعَة: غماز، چغلخور، تہمت تراش، بدنام کرنے والا، بدنامی کی باتیں پھیلانے والا، بہتان لگانے والا، غیبت کرنیوالا۔وقوع: گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، آرام سے بیٹھنا، ماجرا، وقوع، حادثہ، واقعہ، سانحہ۔وَقِیعة جمع وَقَائِع: واقعہ، ماجرا، واردات، حادثہ، سانحہ، معرکہ، جنگ، لڑائی، مڈبھیڑ، مقابلہ۔(جمع وقائع): واقعات، عجیب واقعات، نئی صورت حال، واقعاتی معلومات، دریافتیں، واقعاتی شہادت، کسی قانونی مقدمہ کے) حقائق، (اسمبلی وغیرہ کی) کارروائی، کی کارروائی کا خلاصہ، حقائق۔دُفْتَر الوقائع: روداد نامہ۔الوقائع المصریۃ: مصر کا سرکاری گزٹ (قدیم ترین عربی اخبار)۔مَوقَع جمع مَوَاقِع: وہ جگہ جہاں کوئی چیز گرے، جگہ، موقع، موقع کی جگہ، مقام علاقہ، جائے وقوع، محل، ٹھیک جگہ، اصلی مقام (بحری جہاز، فوج کا)، سین، منظر، صورت حال، محل وقوع، پوزیشن مورچہ، تاثر، کسی چیز کے پڑنے کی تاریخ اور وقت۔مواقعُ الاطلال: کھنڈرات (کی جگہیں)۔مواقع النظر: فراست کا میدان یا دائرہ۔موقعٌ مُتَقَدِّم: اگلا مورچہ۔مواقع النجوم: ستاروں کے مدار۔لم یکن یعرف موقعَ وقتہ ذاك من اللیل: وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت رات کتنی گزر چکی تھی۔مَوْقَعَة جمع مَوَاقِع: میدان جنگ، لڑائی، معرکہ کارزار، مقابلہ۔مِیقَعَة: سان۔توقیع جمع توقیعات: دستخط۔بتوقیع فلان یا تحتَ توقیع فلان: کے دستخطوں سے، کی قلم سے۔مُھْمَلُ التوقیع: بلا دستخط۔توقِیعی: موزونیت یا تناسب والا۔وِقاع: وصال، مباشرت، مجامعت، صحبت۔ایقاع جمع ایقاعات: تال ترنم۔ایقاعی: متناسب، تال دار موزوں، لے دار۔وَاقِع: گرنے والا، پڑنے والا، الٹ کر گرنے والا، بری طرح گرنے والا، واقع ہونے والا، حقیقی، واقعی، اصل، واقعاتی، مادی، محسوس، واضح، واقعہ، حقیقت، واقعہ، امر واقعہ، واقعاتی معلومات یا دریافتیں، واقعاتی شہادت، حقائق، واقع، (فعل) متعدی۔الواقع: حقیقت، واقعہ، حقیقی مادی دنیا۔وَاقِعًا یا فی الواقِع یا فی واقعِ الامر: عملی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مقاصد کے لئے، واقعی، سچ مچ، واقعہ یہ ہے، امر واقعہ یہ ہے، دراصل، درحقیقت، فی الواقع۔ بِـواقِـعِ: کی مقدار یا رقم کا۔ غیـر واقـعِ: جھوٹ، غلط، غیر حقیقی، موہوم، (فعل) لازم۔ الامرُ الواقع: مکمل حقیقت۔ واقِعُ الحال: واقعاتی معلومات، دریافتیں، واقعاتی شہادت، حقائق۔ الواقع انَّ: یہ حقیقت ہے کہ، امر واقعہ یہ ہے کہ، دراصل، درحقیقت، فی الواقع۔ دُونَ الواقِعِ بکثیرٍ: حقیقت سے بہت دور، سچ سے بہت دور۔ من واقِعِ ھذہ السِجلاتِ: ان رجسٹروں میں درج معلومات کے مطابق۔ واقِـعـة: واقعہ، حادثہ، سانحہ، وقوع، نئی صورتِ حال، حقیقت، افسوسناک حادثہ، لڑائی، جنگ۔ واقِعیّ: حقیقی، واقعی، اصلی، واقعیت پسندانہ، حقیقت پسندانہ، ایجابی، مثبت، قطعی، صریح۔ واقِـعِیَّة: حقیقت، حقیقت پسندی، حقیقت نگاری۔ مُوَقِّع: دستخط کرنے والا۔ مُوَقَّع: درج شدہ، ریکارڈ شدہ، رجسٹرڈ، دستخط شدہ۔ مُتوقَّع: توقع کیا گیا، امید کیا گیا، اندازہ کیا ہوا، فرض کردہ، ماننے کے قابل، قرین قیاس، غالب، اغلب، ممکن، قابل قبول، حقیقت سے قریب، واقعیت سے ملتا جلتا، بہت ممکن، غالبًا۔ من المتوقع ان: امید کی جاتی ہے کہ، توقع ہے کہ۔

وقف: وَقَفَ یقِفُ وَقْفًا و وُقُوفًا: ٹھہرنا، کھڑا ہونا، چپ چاپ کھڑا ہونا۔ فی المسالۃِ: مسئلہ میں شک کرنا۔ القاریُ علی الکلمۃ: پڑھنے میں آخری حرف کو ساکن کرنا اور بعد کے حرف سے منقطع کرنا۔ علی الامر: کو سمجھنا اور اس سے آگاہ ہونا۔ وَقَفَ وَقْفًا الدابّۃَ: جانور کو ٹھہرانا۔ ۂ عن الشیءِ: کو سے روکنا، منع کرنا۔ الدارَ: گھر کو وقف کرنا۔ کہا جاتا ہے: وقفھا له و علیه: اس نے گھر کو کیلئے وقف کر دیا۔ الامر علی حضور فلان: معاملہ کو کسی کی موجودگی پر موقوف کرنا یا رکھنا۔ ۔ ۂ علی الذنب: کو گناہ سے خبردار کرنا۔ القدرَ بالمیقاف: ہانڈی کے جوش کو ڈوئی سے کم کرنا۔ علیه: کا معائنہ کرنا۔ وقِیفَی النصرانیُّ: گرجا کر خدمت کرنا۔ وَقَّفَ ۂ: کو کھڑا کرنا۔ الترسَ: ڈھال کے گرد لوہے کا حلقہ بنانا۔ المرأۃَ: عورت کو کنگن پہنانا۔ السرجَ: زین کی درستی کرنا۔ الحدیثَ: حدیث کو بیان کرنا۔ القاریَٔ: پڑھنے والے کو وقف کے موقعے بتانا اور وقف کی جگہیں سکھانا۔ الجیشُ: ایک دوسرے کے پیچھے یا بعد کھڑا ہونا۔ تِ المرأۃُ یدیھا بالحنّاءِ: عورت کا ہاتھوں کو مہندی کے رنگ سے نقطے دار بنانا۔ الدابۃَ: جانور کو ٹھہرانا۔ فلانًا علی ذنبه: کو اس کے گناہ سے باخبر کرنا، مطلع کرنا۔ واقَفَ مُواقَفَۃً و وِقافًا ۂ فی الحرب او الخصومۃ: جنگ یا جھگڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ۂ علی کذا: کو کسی بات پر ثابت قدم رہنے کے لئے کہنا۔ اَوْقَفَ ۂ: کو ٹھہرانا، کھڑا کرنا۔ الدارَ: گھر کو وقف کرنا۔ الجاریۃَ: لڑکی کیلئے کنگن بنانا۔ عن الامر: سے رک جانا۔ تَوَقَّفَ فی المکان: کسی جگہ میں ٹھہرنا۔ علی الامر: پر جم جانا، ثابت قدم رہنا۔ عن کذا: سے رک جانا، باز رہنا۔ تَواقَفَ القومُ فی الحرب: جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا، ملنا۔ اِتَّقَفَ: ٹھہرنا، کھڑا ہونا۔ اِستَوْقَفَ ۂ: کو کھڑے ہونے کیلئے کہنا۔ الواقِف جمع وُقَّف و وُقُوف (فا): کھڑا ہونے والا۔ عند الفقہاءِ: اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، وقف کرنے والا۔ الوَقْف: حرف کو بعد کے حرف سے جدا کرنا، کنگن۔ عند اھل العروض: (اصطلاح علم عروض میں) ساتویں متحرک حرف کو ساکن کرنا۔ من الترس: ڈھال کے گرد لوہے یا سینگ کا حلقہ۔ ۔ جمع اوقاف و وُقُوف عند الفقہاءِ: (کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں) وقف (کرنا)۔ وقف شدہ چیز۔ الوَقْفَۃ: اسم مرۃ، ایک دفعہ رکنا، ٹھہرنا، کھڑا ہونا، شک۔ من الترس: ڈھال کے گرد لوہے یا سینگ کا حلقہ۔ الوَقّاف: دیروستی کرنیوالا، لڑائی سے رکنے والا۔ الوَقّافۃ: ڈر کر رکنے اور آگے نہ بڑھنے والا۔ الوَقِیفۃ: تھک کر کھڑا ہو جانے والا شکار، جگہ جو کتے اپنے مالکوں کیلئے مخصوص کر لیں۔ التَوْقِیف (مص): جوئے کے تیر کا نشان، کنگن کی جگہ کی سفیدی، جانور کی ٹانگوں میں کنگن کی طرح کی دھاریاں یا سیاہ دھاریاں۔ المَوْقِف: ٹھہرنے کی جگہ۔ موقفُ المرأۃِ المحجبۃ: پردہ نشین عورت کے ہاتھ، آنکھیں اور وہ اعضاء جن کو ظاہر کئے بغیر چارہ نہیں۔ المَوقفان (ع ا): دبر کے پاس کی دو رگیں۔ المَوقِفۃ: ٹھہرنے کی جگہ۔ المُوَقَّف (مفع)، من الدواب: دونوں ہاتھوں پر گول داغوں والا جانور۔ ضَرعٌ مُوَقَّفٌ: تھن جس پر ڈوری کے نشان ہوں۔ رجلٌ مُوَقَّفٌ: تجربہ کار آدمی۔ رجلٌ مُوَقَّفٌ علی الحق: حق کا پیرو۔ دابۃٌ مُوَقَّفۃٌ: جانور جس کی ٹانگوں پر سیاہ لکیریں ہوں۔ المیقاف (اع): بریک (brake)۔ والمیقف: کرنی، ڈوئی۔ المَوقُوف: مفع۔ عند الفقہاء: وقف شدہ۔

وَقَفَ یقِفُ وَقْفًا و وُقُوفًا: ٹھہرنا رکنا، خاموش کھڑا ہونا۔ فوقَ: پر قدم رکھنا، چڑھنا، پر اپنے دلائل کی بنیاد رکھنا، پر لگنا، مقرر ہونا۔ عند یلی: پر رکنا۔ ۔ الی: تک پہنچنا، پھیلنا، جانا۔ : رکنا، ذرا رکنا۔ ۔ فی: میں یا پر ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، تأمل کرنا، پس و پیش کرنا، پر شکوک ہونا، ضمیر کی خلش ہونا۔ : اٹھنا، کھڑا ہونا، پاؤں پر کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا (رونگٹے کھڑے ہونا، مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، مقابلہ میں جمے رہنا۔ علی: پر پوزیشن لینا۔ ۔ مع: کے پاس کھڑے ہو جانا، کی مدد کرنا، کا ساتھ نہ چھوڑنا، سے وفاداری کرنا، کی پشتبانی کرنا، کی پشت پر ہونا، کی مدد یا پشت پناہی کرنا۔ یفعل: کرنا جاری رکھنا، کرتے رہنا۔ وُقُوفًا علی: میں مشغول رہنا، لگا رہنا، پر توجہ کرنا، میں حصہ لینا، شریک ہونا، کا مطالعہ کرنا، کو پڑھنا، کو تن دہی سے کرنا، کی نذر کرنا، کیلئے خود کو وقف کرنا، مخصوص کرنا، میں دلچسپی لینا، دلچسپی رکھنا، کے متعلق دریافت کرنا، کے متعلق معلومات چاہنا، سے مطلع ہونا، کے متعلق جاننا، آگاہ ہونا، کو سمجھنا، کو جاننا، کا ادراک کرنا، سے واقف ہونا۔ وَقْفًا ہ یا ہ: کو ٹھہرانا، روکنا۔ ہ: کو ختم کرنا، کا خاتمہ کرنا۔ ہ یاہ یادون / عن: کو سے روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو سے باز رکھنا، کو سے مخفی رکھنا۔ ہ علی: کو پر منحصر کرنا، کو سے وابستہ کرنا، کو سے مشروط کرنا۔ وُقِفَ علی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، سے مشروط ہونا۔ ہ علی: کو سے آگاہ کرنا، کو سے مطلع کرنا، کو کے بارے میں بتانا، مشورہ دینا، ہدایت دینا، حکم دینا، پر کی توجہ مبذول کرانا۔ ہ علی: کوئی چیز کسی (نیک کام وغیرہ) کے لئے دینا، عطا کرنا، عطیہ دینا، کو کیلئے وقف کرنا، کو کسی کو منتقل کرنا، کو کے حوالے کرنا، کو کے لئے وقف کرنا، نذر کرنا۔ ہ ل: کو کیلئے مخصوص کرنا، تفویض کرنا، سونپنا، معین کرنا۔ وقف نفسَهُ ل: خود کو کیلئے نذر کرنا، وقف کرنا، کو مخصوص کرنا۔ قِفْ!: ٹھہرو! وَقَفَ امامه: کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا۔ وقف الی جانبه: کی طرفداری کرنا۔ وقف الی یسارہ: کے بائیں ہاتھ کھڑا ہونا۔ وقف سدًّا دُونَ: کے راستہ میں حائل ہونا، کے راستہ میں کھڑا ہونا۔ لا یقف دُونَهُ شیءٌ: کوئی چیز اس کے راستہ میں حائل نہ ہوگی، کوئی چیز اس کو نہ روک سکے گی۔ وقف حائرًا: گومگو کی حالت میں ہونا۔ وقف

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

علی الجیاد: غیر جانبدار رہنا، سخت جانبداری برتنا۔ وقف علی ساق الجِدّ ل: کیلئے ہر کوشش کرنا، میں جوش وخروش سے حصہ لینا، کیلئے پوری مدد کرنا، ہر طرح کی کوشش کرنا۔ وقف علی شفیرِ الھلاك: تباہی کے کنارے پر ہونا۔ وقف عند حد: تک جانا، میں ہی رہنا۔ وقف فی وجہ فلان: کا مقابلہ کرنا، کے خلاف ڈٹے رہنا۔ وقف موقفاً من: کے بارے میں موقف اختیار کرنا، رویہ اختیار کرنا۔ وقف موقفاً یملؤہُ الحزمُ: انتہائی ثابت قدمی کا موقف یا رویہ اختیار کرنا۔ وقف وقفاً: کوئی انداز اختیار کرنا۔ وقف وَقفةً: بالکل رک جانا، ایک رویہ اختیار کرنا۔ وقفهُ عن العمل: کو نوکری سے معطل کرنا۔ وَقَّفَ ہ یا

ہ: کو روک لینا، روک دینا، دیر لگانا، کو تھامے رہنا، سنبھالے رہنا، کو روکے رکھنا، یکایک روکنا، ٹوکنا، کی نشوونما کو روکنا یا کم کرنا، کی راہ میں روڑے اٹکانا، کے کام میں رکاوٹیں ڈالنا، کا راستہ روکنا، کو آہستہ کرنا (کوئی گاڑی وغیرہ) پارک کرنا، کو سیدھا کھڑا کرنا، کو اونچا کرنا، بلند کرنا، کو بالکل سیدھی حالت میں رکھنا۔

ہ: کو گرفتار کرنا۔ ہ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا۔

ہ علی: کو سے آگاہ کرنا، مطلع کرنا۔ علی: کے فائدہ کے لئے یا کے حق میں وقف کرنا۔ وَقّفهُ عند حدہ: کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ اَوْقَفَ ہ: کو کھڑا کرنا، نصب کرنا۔ ہ یا ہ: کو روک لینا، روک دینا، کو گرفتار کرنا، کی راہ میں روڑے اٹکانا، کا راستہ روکنا، کے کام میں رکاوٹیں ڈالنا، کو آہستہ کرنا۔ ہ: کو روکنا، ملتوی کرنا، کو بند کرنا، چھوڑنا، ترک کرنا، کا سلسلہ منقطع کرنا، (تعلقات) توڑنا، (کوئی سرگرمی وغیرہ): کو ملتوی کرنا، میں سستی کرنا، تاخیر کرنا، کو لٹکائے رکھنا۔ ہ: کو گرفتار کرنا، قید کرنا۔ ہ: اخبار وغیرہ پر پابندی لگانا، کی اشاعت روک دینا، کو ممنوع قرار دینا۔ ہ علی: کو سے آگاہ کرنا، مطلع کرنا، کو کے متعلق بتانا، کی توجہ کی طرف مبذول کرنا۔ ہ علی: کو کسی نیک یا خیراتی مقصد کے لئے عطا کرنا، قائم کرنا، تخلیق کرنا۔ ہ علی: کسی چیز کو کسی کو منتقل کرنا، کو کی تحویل میں دینا، کو کچھ میراث کے طور پر دینا، کو کچھ تفویض کرنا، دینا یا سونپنا، کچھ کیلئے علیحدہ کرنا، معین کرنا، کو کیلئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، نذر کرنا، کوششیں کیلئے صرف کرنا۔ اوقف اِھتمامهُ علی: توجہ پر مرکوز کرنا۔ اوقف تنفیذ الحکم: سزا پر عمل درآمد روک دینا، فیصلہ روکنا، فیصلہ پر عملدرآمد روکنا، عارضی مہلت دینا۔ اوقف حرکةَ المرور: آمدورفت

روکنا۔ اوقفه عن العمل: کو عہدہ سے ہٹانا، فارغ کرنا۔ تَوَقَّفَ: رکنا، ٹھہرنا، بالکل رک جانا، خاموش کھڑا ہونا، مذاکرات وغیرہ کا تعطل کا شکار ہو جانا۔ عن: کی سرگرمی میں رکنا، کو معطل کرنا، کی راہ میں حائل ہونا، کا سلسلہ منقطع کرنا، کچھ کرنے یا کسی چیز سے رک جانا، کو بند کرنا، چھوڑنا، ترک کرنا، سے باز رہنا۔ فی: میں ہچکچانا، پس وپیش کرنا، متذبذب ہونا۔ علی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، انحصار کرنا، سے مشروط ہونا، پر مبنی ہونا، منحصر ہونا، مشتمل ہونا۔ تواقفا: ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، جنگ میں ملنا۔ اِستَوقَفَهُ: کو رکنے کے لئے کہنا۔ ہ یا ہ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو آہستہ کرنا، کی نشوونما کو روکنا یا کم کرنا۔ ہ: کو ایک مختصر وقفہ دینا۔ نظرہُ: سے نظریں چار ہونا، کی توجہ ابھارنا۔ الانتباہ: جاذب توجہ ہونا۔ کان وقفاً علی: کا پر مکمل طور پر متوسل ہونا۔ وقفا علی: تک محدود۔ وقفٌ اھلی، وقفٌ خاصٌ، وقفُ ذریةٍ: خاندانی وقف، پرائیویٹ وقف۔ وقف خیریٌّ و وقفٌ عامٌّ: پبلک وقف۔ ناظرُ الوقف: وقف کا مہتمم۔ الاوقاف: نظام وقف، ناقابل انتقال جائدادوں کا وقف۔ وزارة الاوقاف: وزارت اوقاف۔ وقفُ إطلاق النار: جنگ بندی۔ وقفُ التنفیذ: عملدرآمد کا التواء۔ اکل خبزَ الوقف: روزی کمانے کا آزاد ذریعہ رکھنا، بے کام کی نوکری کرنا۔ وَقْفِی: وقف کا، وقف کے متعلق۔ وَقْفِیّة: وقف کا نظام، مذہبی اوقاف کی فہرست، ناقابل انتقال جائدادوں کے وقف کی فہرست، وقف کا اصل منشور۔ وَقْفة جمع وقفات: کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کا انداز، حالت، انداز، ٹھہرنے کی جگہ، پڑاؤ، رکنا، مختصر وقفہ، فل سٹاپ، مستقر، راستہ میں ٹھہرنے کی جگہ، حج کے دوران عرفات پر ٹھہرنے کی جگہ، رویہ، موقف، پالیسی، مذہبی تہوار سے پہلے کی شام یا دن نیز یوم الوقفة: وقفة العید الصغیر: عیدالفطر سے پہلا دن، یکم شوال کو افطار کا جشن۔ وقفة العید الکبیر: عیدالاضحیٰ سے پہلا دن، دس ذوالحجہ کو قربانی کا جشن۔ وَقّاف: نگران، ناظم، محافظ۔ مَوقِف جمع مَواقِف: رکنے کی جگہ، کیب (Cab) وغیرہ کے رکنے کی جگہ، بس سٹینڈ، ریلوے سٹیشن، پارک کرنے کی جگہ، شاپ، جگہ، موقع، سین، سینری، موقف، اصلی مقام، رائے، رویہ۔ موقفٌ حربی: سٹرٹیجک صورت حال۔ موقف سیاسی: سیاسی صورت حال۔

موقفٌ عدائی: معاندانہ رویہ، مخالف نقطہ نگاہ۔ موقفُهُ من: کے متعلق یا کے بارے میں اسکا موقف یا رویہ۔ توقیف: اٹھانا، نصب کرنا، کھڑا کرنا، گرفتاری، قید، نظر بندی، حراست، پارک کرنا، پارکنگ۔ ایقاف: اٹھانا، کھڑا کرنا، نصب کرنا، گرفتاری، قید، نظر بندی، حراست، روکنا، کم کرنا، چیک کرنا، حائل ہونا، رکاوٹ، کام کا تعطل، خاتمہ، ترک، انقطاع، التواء، تاخیر، رہنا، قیام، روک تھام، انسداد، خلل، رکاوٹ، مداخلت، دخل اندازی، عہدہ سے علیحدگی، ڈیوٹی سے معطلی، نوٹس، اطلاع، اعلان۔ ایقاف التنفیذ: التوائے تعمیل۔ ایقاف الحکم: فیصلہ کی روک تھام۔ ایقاف الدعوی: کارروائی کی روک تھام۔ ایقاف الدفع: ادائیگی میں تاخیر، مہلت، قرضے کی ادائیگی میں مہلت۔ ایقاف العمل: کام کا تعطل۔ تَوَقُّف: وقفہ، التواء، توقف، رکنا، ٹھہراؤ، ذرا رکنا، ہچکچاہٹ۔ علی: پر انحصار، دارومدار۔ التوقف عن الدفع: ادائیگی میں تعطل۔ واقف: رکنے والا، خاموش کھڑا ہونے والا، بے حرکت، ساکن، بے حس و حرکت، آرام کرنے والا، کھڑا، بالکل سیدھا۔ علی: سے واقف، سے شناسا۔ : تماشائی، وقف کرنے والا۔ علی الواقِف: فوراً، فی الفور، وہیں، اسی وقت، اسی دم، موقع پر موجود۔ ھَبَّ واقِفاً: اپنے پاؤں پر اٹھنا، سو کر اٹھنا، اٹھنا۔ مَوقُوف: گرفتار کیا ہوا، روکا ہوا، معطل کیا ہوا، منقطع کیا ہوا، بات کاٹا ہوا، کلام منقطع کیا ہوا، تاخیر کیا ہوا، ملتوی کیا ہوا، موقوف رکھا ہوا، تاخیری، گرفتار کیا ہوا، قید کیا ہوا، حراست میں لیا ہوا، زیر حراست شخص، قیدی، ڈیوٹی سے معطل، عہدہ سے ہٹایا ہوا، وقف کے طور پر قائم شدہ، وقف کے ذریعے ہبہ شدہ، ناقابل انتقال، عطیہ شدہ، عطا شدہ، قائم شدہ، نذر کردہ، وقف شدہ۔ علی: کیلئے مخصوص کیا ہوا، پر منحصر، سے وابستہ، سے مشروط، پر مبنی، پر ٹیک لگایا ہوا۔ : معرض التواء میں، کھٹائی میں پڑا ہوا۔ الموقوف علیه: وقف سے فائدہ اٹھانے والا۔ الاراضی الموقوفة: وقف شدہ جائیدادیں۔ لاعبٌ موقوف: نااہل قرار دیا گیا کھلاڑی۔ موقوفٌ قیدَ المحاکمة: تحقیقات تک قید کیا ہوا۔ مُتَوَقِّف علی: پر منحصر، سے مشروط۔

وقل: وَقَلَ یَقِلُ وَقْلاً: ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا۔ وَتَوَقَّلَ فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ الوَقْل (مص) واحد وَقْلَة جمع اَوْقال (ن): کوگل

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کا درخت یا اس کا پھل۔ الوَقَل: پتھر، شاخوں کے ٹھنٹھ جو چڑھنے والے کو چڑھنے میں مدد دیں۔ ــــ والوَقِل و الوُقُل من الخیل: چڑھنے والا گھوڑا۔ الوَقْلَة جمع وُقُول: گوگل کے پھل کی گٹھلی۔ کہا جاتا ہے: رَجُل وَقْلَةَ الرأس: بہت چھوٹے سر کا آدمی۔ فرسٌ توقلةٌ: پہاڑ پر بخوبی چڑھنے والا گھوڑا۔

وقم: ۱۔ وَقَمَ یَقِمُ وَقْماً الدابَّةَ: لگام کھینچ کر جانور کو ٹھہرانا۔ ــــ القدرَ: ہانڈی کا ابال ٹھنڈا کرنا۔ ــــ وَقْماً و وَقَّمَ و اَوْقَمَ الرجُلَ: کو مغلوب کرنا، حاجت سے بری طرح روک دینا۔ وُقِمَت الأرضُ: زمین کی گھاس کا چرلیا جانا اور لتاڑا جانا۔ تَوَقَّمَ الرجُلَ: کو دھمکی دینا۔ ــ الکلامَ: کلام یاد کرنا۔ ــ الشیءَ: کا ارادہ کرنا۔ ــــ الصیدَ: شکار مارنا۔ الوِقام: کوڑا، تلوار، لاٹھی، رسی۔ المَوْقُوم (مفع): غمگین، حاجت سے روکا ہوا۔

۲۔ تَوَقَّم فیه: کوطول دینا۔

وقن: اَوْقَنَ اِیْقَاناً و تَوَقَّنَ: پرندے کا شکار اس کے گھونسلے سے کرنا۔ تَوَقَّنَ الوعلُ فی الجبل: پہاڑی بکرے کا پہاڑ پر چڑھنا۔ الوُقْبَة و الأُقْنَة جمع وُقُنَات و أُقنات: گھونسلہ۔ المَوْقُونَة من الجواری: پردہ نشین لڑکی۔

وقه: وَقَهَ و وَقِهَ یَقِهُ وَقْهًا و أَیْقَهَ و اسْتَیْقَهَ لفلانٍ: کی اطاعت کرنا۔ تَّقَهَ لفلانٍ: کی اطاعت کرنا۔ ــــ عنه: سے باز رہنا۔ الوَاقِه: گرجہ کا ناظم (بعض کے نزدیک صحیح وَاقِہ ہے)۔ الوَقْهَة: اطاعت فرمانبرداری۔

وقی: ۱۔ وَقَی یَقِی وِقَایةً و وَقْیاً و وَاقِیَةً فلاناً: کی حفاظت کرنا، کو اذیت سے بچانا۔ کہا جاتا ہے وَقَاهُ اللّٰهُ السوءَ و مِن السوء: اللہ تعالیٰ اسے برائی سے بچائے۔ ــــ وَقْیاً و وُقِیاً الأمرَ: کسی امر کو درست کرنا۔ وَقْیاً و وَقِیَ یَوْقَی وَقِّی الفرسُ من الحفا: گھوڑے کے کھر کا گھسنا۔ تَقَی یَتْقَی تُقًی و تِقَاءً و تَقِیَّةً: پرہیزگار رہنا۔ وَقَّی فلاناً: کی حفاظت کرنا، کو اذیت سے بچانا۔ اِتَّقَی اِتِّقَاءً: پرہیزگار رہنا۔ اِتَّقَیْنَا به: ہم نے دشمن سے بچنے کیلئے اس کی آڑ لی۔ اسے اپنے آگے رکھا۔ دشمن کا اس کے ذریعے سامنا کیا۔ ــ اِتِّقَاءً و تَوَقَّی تَوَقِّیاً فلاناً: سے ڈرنا، خوف کھانا، سے بچنا۔ کہا جاتا ہے: مَا اَتْقَاهُ لِلّٰهِ! وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرنے والا ہے۔ فرسٌ واقٍ: کھر میں تکلیف کی وجہ سے چلنے سے ڈرنے والا گھوڑا۔ ــ سَرْجٌ واقٍ: زخمی نہ کرنے والی زین۔ الوَاقِیَة (مص) جمع وَاقِیات و اَوَاقٍ: واقی کا مونث۔ الوَقَاء و الوِقَاء و الوَقَایَة و الوِقَایة و الوُقَایة: بچنے کا ذریعہ۔ رَجُلٌ وَقَّاءٌ: بہت پرہیزگار۔ سرجٌ وَقِیٌّ: زخمی نہ کرنے والی زین۔ التُّقَاة جمع تُقًی: پرہیزگاری۔ التَّقْوَی: پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ سے خوف اور اس کی اطاعت میں عمل۔

التَّقِی جمع أَتْقِیاء و تُقَوَاء و المُتَّقِی: صاحب تقویٰ، متقی، پرہیزگار۔ المُوَقَّی (مفع): بہادر۔

۲۔ الوَاقِی و الوَاقِ (ح): کوا، بعض کے نزدیک شکرا، کٹھ پھوڑا (پرندہ)۔ الاُوقِیَة جمع اَوَاقِی و اَوَاقٍ و الوُقِیَّة جمع وُقِیّ و وَقَایَا: رطل کا بارہواں حصہ۔

⊂ وَقَی یَقِی وَقْیاً و وِقَایَةً ہ: کی حفاظت کرنا، کو محفوظ کرنا، نقصان سے بچانا، بگڑنے نہ دینا، محفوظ کرنا، برقرار رکھنا، کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ ــ ہ ہ: کی سے حفاظت کرنا، کو سے پناہ دینا، کو سے بچانا، کو سے بچائے رکھنا، کو سے محفوظ رکھنا، کو سے روکنا، کی سے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا۔ ــــ ہ: (خطرہ) سے بچنا، خطرہ دور کرنا۔ تَوَقَّی و اِتَّقَی ہ: سے بچنا، سے چوکس، چوکنا یا ہوشیار ہونا، سے بچنے کی کوشش کرنا، سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کے خلاف پورا بندوبست کرنا۔ اِتَّقَی اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اتقی اللّٰهَ فی حق الشیءِ: کے بارے میں خوف اللہ تعالیٰ کرنا، یعنی خوف خدا کی وجہ سے کسی چیز کو نرم دلی سے برتنا یا کم کم برتنا، یا کی پروا کرنا یا کو ضمیر کا مسئلہ بنانا۔ وَقْی: حفاظت۔ وَقَاء و وِقَاء: حفاظت، احتیاط، روکنا۔ وِقَایة: حفاظت، احتیاط، احتیاطی تدبیر، پیش بندی، حفظ ماتقدم، دور کرنا، باز رکھنا، تدارک کرنا، بال بال بچنا۔ ــ مِن: کے خلاف دفاع، احتیاطی علاج۔ الوقایة من الغارات الجوّیة: ہوائی حملوں سے بچاؤ۔ مُعَدَّات الوقایة: حفاظتی آلات یا چیزیں۔ وِقَایَة: حفاظتی کور، پوشش۔ وِقَائی: احتیاطی۔ الطبُّ الوقائی: احتیاطی دوا یا علاج۔ وَقِیّ: بچانے والا، محافظ، محفوظ رکھنے والا، سرپرست۔ تَقْوَی: تقویٰ، خداترسی، پارسائی، پرہیزگاری۔ تَقِی جمع اَتْقِیَا: خداترس، متقی، اللہ والا، پارسا، دیندار، خداپرست، عابد، غازی، پرہیزگار۔ تَقِیَّة: خوف، چوکسی، خبرداری، ہوشیاری، احتیاط، مصلحت بینی، عاقبت اندیشی، تقیہ (زمانہ سازی، مکاری، ریاکاری)۔ وَاقٍ: حفاظت کرنے والا، محفوظ کرنے والا، احتیاطی، انسدادی، مانع، دافع، محافظ، وہ چیز جو کسی چیز کو بگڑنے نہ دے، سرپرست، بیماری کو روکنے والی دوا۔ ــ واقٍ من الریح: ہوا سے محفوظ رکھنے والا۔ دِرْعٌ واقٍ: حفاظتی زرہ۔ صَفْحَةٌ واقِیَة: کتاب کے شروع یا آخر کا ورق، ڈسٹ کور، جیکٹ، لپیٹنے کا کاغذ۔ مِظَلَّة واقِیَة: پیراشوٹ (parachute)۔ مِعْطَفٌ واقٍ: برساتی (rain coat)۔ قِنَاعٌ واقٍ: گیس ماسک (gas mask)۔ وَاقِیَة: حفاظت، پناہ، ڈھال، مانع، دافع، انسدادی تدبیر، وہ چیز جو کسی چیز کو بگڑنے نہ دے۔ مُتَّقٍ: خداترس، متقی، اللہ والا، پارسا، دیندار، خداپرست، پرہیزگار۔ وُقِیَه و وُقِیَة: وزن کا ایک پیمانہ جو شام، مصر، بیروت اور یروشلم میں رائج ہے۔ مصر میں ۱/۱۲ رطل یا ۳۷ گرام، الپو میں ۳۲۰ گرام، بیروت میں ۲۱۳،۳۹ گرام اور یروشلم میں ۲۴۰ گرام کے برابر ہے۔

وكّ: وَکُوك الحمامُ: کبوتر کا گوکو کرنا۔ ــ فلانٌ من الحرب: لڑائی سے بھاگ جانا۔ تَوَکْوَكَ الرجُلُ: لڑھکتے ہوئے چلنا۔ الوَکْوَاك: بزدل، چلنے میں لڑھکنے والا۔

وکا: تَکِیَ یَتْکَأُ تَکْأً الرجُلُ: بمعنی اِتَّکَأَ۔ وَاکَأَ مُوَاکَأَةً و وِکَاءً علی یدیه: دعا کیلئے دونوں ہاتھ اٹھانا۔ اَوْکَأَ اِیکَاءً: کیلئے تکیہ لگانا۔ ــ علی الشیءِ: کا سہارا لینا، پر ٹیک لگانا۔ ۲۔ اَتْکَأَ اِتْکَاءً: کو جھکانا، کے نیچے ٹیک لگانے کیلئے تکیہ رکھنا۔ تَوَکَّأَ علی عصاه: لاٹھی کا سہارا لینا، لاٹھی پر ٹیک لگانا۔ اِتَّکَأَ اِتِّکَاءً علی السریر: تخت پر سہارا لے کر بیٹھنا، پیٹھ یا پہلو کسی چیز پر رکھنا۔ ــ علی عصاه: چھڑی پر سہارا لینا۔ ــــ القومُ عنده: کے ہاں کھانا کھانا۔ التُّکَأَة: وہ چیز جس کا سہارا لیا جائے، جیسے چھڑی کمان وغیرہ، سست آدمی جو بہت سہارا لے۔ الاِتِّکَاءُ (مص)۔ ــ عند اهل العروض: اہل عروض کی اصطلاح میں: حشو فضول۔ المُتَّکَأ جمع مُتَّکَآت: وہ چیز جس کا سہارا لیا جائے۔

⊂ تَوَکَّأَ و اِتَّکَأَ علی: کا سہارا لینا، سے یا پر ٹیک لگانا، کرسی وغیرہ پر تکیہ لگا کر بیٹھنا یا لیٹنا۔ تُکَأَة: لاٹھی، سہارا، آڑ، ٹیک، ٹیکن، آسرا (کرسی وغیرہ کی) پشت، کاہل، سست، کام چور۔ تَوَکُّؤ: سہارا لینا، ٹیک لگانا، جھکنا، ترچھا ہونا، تکیہ لگانا، تکیہ لگا کر بیٹھنا یا لیٹنا۔ اِتِّکَاء: بمعنی توکؤ۔ مُتَّکَأ جمع مُتَّکَاءات: سہارا، آڑ، ٹیک، ٹیکن، آسرا، تکیہ، گدی، صوفہ، کوچ۔

وکب: ۱۔ وَکَبَ یَکِبُ وُکُباً: سیدھا کھڑا ہونا۔ وَکِبَ یَوْکَبُ وَکَباً و وَکَّبَ التمرُ: کھجور کا پک کر سیاہ ہونا۔ المَاکِبَة: جانور کی ٹانگ۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔ وَکَبَ یَکِبُ وَکْباً علی الأمر: کوکرتے رہنا، پرجما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، کومتواتر یا پے در پے کرتے رہنا، کو بڑی محنت اور کوشش سے کرنا، پرثابت قدم رہنا۔ ــ وَکْباً و وُکوباً و وَکَباناً: آہستگی سے چلنا۔ وَکَبَ النـاقَةَ: اونٹنی کے تھن کو باندھنے کی ڈوری کوسختی سے نہ باندھنا۔ وَاکَبَ مُوَاکَبَةً علی الاسر: کوکرتے رہنا، پرثابت قدم رہنا۔ ــــ المرکَبَ: جلوس کے ساتھ چلنا۔ اَوْکَب اِیکاباً: جلوس کے ساتھ رہنا۔ ـ علی الاسر: کوکرتے رہنا، پرثابت قدم رہنا۔ ـ الطائرُ: پرندے کا اڑنے کیلئے تیار ہونا یا بیٹھنے کے لیے پر پھڑ پھڑانا۔ الوَکّاب: بہت غم کرنے والا۔ ظَبیةٌ وَکُوبٌ: ڈار کے ساتھ رہنے والا ہرن۔ المَوکِب جمع مَوَاکِب: سواروں یا پیدل چلنے والوں کی جماعت، جلوس (سوار یا پیدل لوگوں کا) اونٹوں پرسوار لوگ۔

۳۔ وَکِبَ یَوْکَبُ وَکَباً و وَکِبَ الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔

۴۔ اَوْکَبَ اِیکاباً هُ: کوغضبناک کرنا۔

○ وَکَبَ یَکِبُ وَکْباً و وُکُوباً و وَکَباناً: آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔ وَاکَبَ هُ: کے ساتھ جانا، کا ہمرکاب یا ہم سفر ہونا، کی معیت میں جانا، کے ہمراہ ہونا۔ ـ د یا ہ: حفاظت کیلئے کسی کے ہمراہ جانا، کا ہم راہ ہونا۔ ــــ ہ: کی حفاظت کیلئے ساتھ چلنا، حفاظتی فوجی دستہ کے طور پر کے ساتھ جانا۔ مَوْکِب جمع مَوَاکِب: پریڈ، شاندار جلوس، جلوس، سوار حفاظتی دستہ، بدرقہ، نوکر چاکر، خدم وحشم، ہمرکاب لوگ، فاتح سپہ سالار کا جلوس۔ موکبُ المشاعیل: مشعل بردار جلوس۔ موکبُ الجنازہ: جنازہ۔ مُوَاکَبَة: فوجی حفاظتی دستہ، حفاظت سے پہنچانا، حفاظت کا فرض۔

وکت: ا۔ وَکَتَ یَکِتُ وَکْتاً: چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔ ــ ت الدابّةُ: جانور کا جلدی جلدی چلنا۔ الوَکّاب: سستی کی وجہ سے چھوٹے قدم رکھنے والا۔ الوَکِیت: چغلخوری، سازش۔

۲۔ وَکَتَ یَکِتُ وَکْتاً الکتابَ: کتاب میں نقطے لگانا۔ ــ فی الشیء: پرنشان لگانا۔ وَکَّتَ تَوْکِیتاً البسرُ: پکنے والی کھجور کا داغدار ہونا۔ الوَکْت: تھوڑی چیز۔ الوَکْتَة: داغ، تھوڑا سا نشان۔

۳۔ وَکَتَ یَکِتُ وَکْتاً القَدَحَ: پیالہ بھرنا۔ وَکَّتَ القربَةَ: مشک بھرنا۔ المَوکوت (مفع): غمگین، رنجیدہ۔

وکح: ا۔ وَکَحَ یَکِحُ وَکْحاً هُ برجلِهِ: کو پاؤں سے زور سے روندنا۔ اَوْکَحَ اِیکاحاً: منع کرنا، سائل سے سختی کرنا۔ ـ فی الحفر: کھودنے میں پتھر یا سخت جگہ تک پہنچنا۔ ـ العطیّةَ: عطیہ منقطع کرنا۔ اِسْتَوْکَحَ استیکاحاً الفراخ: چوزوں کا موٹا ہونا۔ کہا جاتا ہے: سَألَهُ فاسْتَوْکَحَ: اس نے اس سے مانگا تو اس نے ہاتھ روک لیا اور کچھ نہ دیا۔ الوُکّح: موٹے چوزے۔ مفرد الوَاکِح یا الوُکُوح۔ الأَوْکَح: پتھر، سخت جگہ۔

۲۔ اَوْکَحَ اِیکاحاً: تھکنا۔ ـ من الأمر: سے رکنا۔

۳۔ الأَوْکَح: مٹی۔

وکد: ا۔ وَکَدَ یَکِدُ وُکُوداً بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــــ وَکْداً الشیءَ: کا قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَکَدَ وَکْدَهُ: اس نے اس کا قصد کیا۔ ـ الأمرَ: کی مشق کرنا۔ ـ وَکْداً و وَکَّدَ و أَوْکَدَ و اَکَّدَ و آکَدَ العهدَ او السرجَ: معاہدہ کو پکا کرنا، زین کو مضبوط کرنا (واؤ سے زیادہ فصیح ہے)۔ تَوَکَّدَ و تَأَکَّدَ: مضبوط ہونا۔ الوَکْد (مص): مراد، قصد۔ الوُکْد: سعی وکوشش۔ کہا جاتا ہے: مازال ذلك وُکْدی: وہ چیز ابھی تک میرا عمل ہے، یہ کام میں اب بھی کرتا ہوں۔ الوِکاد و الإکاد: وکائد کا واحد: رسی یا تسمہ جس سے دودھ دوہتے وقت گائے کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں۔ الوَکِید و الأکِید: سخت، مضبوط، ثابت۔ الأَوْکَد و الآکَد: زیادہ ثابت قدم۔ التَوَاکِید و التآکِید و المَیَاکِید: زین کے اگلے حصہ کو باندھنے کے تسمے۔ المُتَوَکِّد: کام کے لئے مستعد۔

۲۔ الوَکْد: غم۔

○ وَکَّدَ ہ: کو باندھنا، کی توثیق کرنا، تصدیق کرنا، کا ثبوت مہیا کرنا، کیلئے حقائق پیش کرنا، کو مستحکم کرنا، پکا کرنا، کو دعوے سے کہنا، کا باضابطہ اعلان کرنا، کی یقین دہانی کرنا، کے پرزور دعوے کرنا، کو وثوق سے کہنا، زور سے کہنا۔ تَوَکَّدَ: موثق ہونا، موکد ہونا، مصدق ہونا، ثابت ہونا، مستحکم ہونا، دعوے سے کہا جانا، وثوق سے کہا جانا، زور دے کر کہا جانا۔ ــ من: (حقیقت) کی تحقیق کرنا، (حقیقت) کا پتہ چلانا، کے متعلق اپنی تسلی کرنا، کا پورا بندوبست کرلینا، کا یقین کرنا۔ وَکْد: خواہش، آرزو، ارادہ، مقصد، کوشش، تمنا۔ وَکِید: توثیق یا تصدیق شدہ، ثابت شدہ، مستحکم کیا ہوا یقینی، قطعی، مثبت۔ تَوْکِید جمع توکیدات و تَوَاکِید: تصدیق، توثیق، (حلفی) اظہار، یقین دہانی، بات جتانا، دعویٰ، تاکید، زور، زائد الفاظ، بھرتی کے الفاظ۔ مُوَکَّد: یقینی، قابل اعتبار، واضح، قطعی، غیر مبہم۔ مُتَوَکِّد: یقینی، واضح، قطعی، غیر مبہم، یقین دلایا ہوا، قائل۔

وکر: ا۔ وَکَرَ یَکِرُ وَکْراً و وُکُوراً الطائرُ: پرندے کا اپنے گھونسلے میں آنا۔ وَکَّرَ و اِتَّکَرَ الطائرُ: پرندہ کا گھونسلہ بنانا۔ ــــ الوَکْر (مص) جمع اَوْکُر و اَوْکار و وُکُور: پرندے کا گھونسلہ۔ الوَکْرَة جمع وُکَر: پرندے کا گھونسلہ۔

۲۔ وَکَرَ یَکِرُ وَکْراً و وَکَّرَ و اَوْکَرَ الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ تَوَکَّرَ الصبیُّ: بچہ کا شکم سیر ہونا۔ ـ الطائرُ: پرندے کے پوٹے بھرنا۔ کہا جاتا ہے: شرب حتی توکّرَ: اس نے سیر ہو کر پیا۔ الوَکْرَة جمع وُکَر: اسم مرۃ۔

۳۔ وَکَرَ یَکِرُ وَکْراً و وُکُوراً لظبیُّ: ہرن کا کودنا۔ الوَکْر و الوَکَر: دوڑ کی ایک قسم۔ الوَکَرَی: دوڑ کی ایک قسم۔ ناقة وَکْرَی: تیز رفتار اونٹنی۔

۴۔ وَکَرَ یَکِرُ وَکْراً هُ: کی ناک پر مکا مارنا۔

۵۔ الوَکْرةُ و الوَکَرة و الوَکِیر و الوَکِیرَة: عمارت کے اختتام پر دی جانے والی دعوت۔

○ وَکْر جمع اَوْکار و وُکور: گھونسلہ، پرندہ کا گھونسلہ، عقاب کا نشیمن، شاہین کا بسیرا، رہائش، سکونت، رہنے کی جگہ، مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، پناہ گاہ، گوشہ تنہائی، خلوت، ہوائی جہازوں کیلئے چھپر۔ وکر اللصوص: ڈاکوؤں کا اڈا۔ وَکْرَة جمع وُکَر: پرندے کا گھونسلہ۔

وکز: ا۔ وَکَزَ یَکِزُ وَکْزاً هُ: کو ہٹانا، مکہ مارنا۔ ــ ہ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ ــ الرمحَ فی الارض: زمین پر نیزہ گاڑنا۔ ـ انفهُ: کی ناک توڑنا۔ الوَکّاز: مکے باز۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ وَکّازٌ لکّاز کأنه حیّةٌ نکّازٌ: فلاں شخص بڑا مکے باز ہے گویا کہ وہ زہریلا سانپ ہے۔

۲۔ وَکَزَ یَکِزُ وَکْزاً فلانٌ: دوڑنا۔ تَوَکَّزَ للامر: کام کیلئے تیار ہونا۔

۳۔ وَکَزَ یَکِزُ وَکْزاً القربةَ: مشک بھرنا۔ تَوَکَّزَ من الطعام: شکم سیر ہونا۔

۴۔ تَوَکَّزَ علی عَصَاه: لاٹھی پر سہارا لینا۔

۵۔ ناقةٌ وَکْزَی: کوتاہ قد اونٹنی۔

○ وَکَزَ ہ: گھوڑے کو ایڑ لگانا، مہمیز کرنا۔ ــ ہ ب: کو سے چیرنا، چھیدنا، کو سے مبہوت کر دینا۔

وکس: وَکَسَ یَکِسُ وَکْساً الشیءُ: کم ہونا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الشیءَ: کو کم کرنا، گھٹانا۔ وُکِسَ التاجرُ فی تجارته و اُوْکِسَ فیها فَوُکِسَ و اُوْکِسَ مالُهٗ: تاجر کا تجارت میں نقصان اٹھانا اور مال تجارت جاتا رہنا۔ وَکَّسَ الشیءَ: کو گھٹانا ــــ فلاناً: کو جھڑکنا، ڈانٹنا۔ الوَکْس (فلک): چاند کی وہ منزل جہاں اس کو گہن لگتا ہے، چاند کا منحوس ستارہ میں آنا (کہا جاتا ہے: هذه لیلةُ الوَکْس یہ چاند کے منحوس ستارہ میں آنے کی رات ہے)، زخم کی پیپ۔ کہا جاتا ہے: بَرَأَت الشجَّةُ علی وکسٍ: سر کا زخم بھر تو گیا مگر پیپ اندر ہی رہی۔ لاوَکْسَ و لا شَطَطَ: نہ کم نہ زیادہ۔ الأوْکَس: زیادہ ناقص۔ رجُلٌ أوْکَس: حقیر، کمینہ، بدقسمت۔

وَکَسَ یَکِسُ وَکْسًا: قیمت میں گرنا، نرخ گرنا، مندا ہوجانا ــــ ہ: کی قدر و قیمت کم کرنا، گھٹانا۔ وُکِسَ (کاروبار میں) نقصان اٹھانا۔ وَکَّسَ ہ: کی قیمت کم کرنا، گھٹانا۔ وکْس: قدر و قیمت کا گرنا، کم ہونا، کم قدری، کم قیمت، نقصان۔ باعَ بالوَکْس: نقصان اٹھا کر بیچنا۔

وکظ: وَکَظَ یَکِظُ وَکْظًا و واکَظَهٗ: کو ہٹانا، کو کنارے پر کرنا، ایک طرف کرنا ــــ علی الأمر: کو متواتر کرنا، کو کرتا رہنا۔ تَوَکَّظ علیه الأمرُ: پر معاملہ پیچیدہ اور مشکل ہوجانا۔

وکع: ۱۔ وَکَعَ یَکَعُ وَکْعًا ہ: کو ڈسنا، سرزنش کرنا ــــ انفَهٗ: کی ناک توڑنا ــــ الشاةَ: بکری کے بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پیتے وقت تھن پر سر مارنا۔

۲۔ وَکِعَ یَوْکَعُ وَکَعًا: پاؤں سے کج پنجے والا ہونا صفت أوْکَع مونث: وَکْعاء۔ وَکُعَ یَوْکُعُ وَکاعَةً الشیءُ: سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ صفت: وَکِیع۔ أوْکَعَ الرجُلُ: دشوار کام لانا ــــ الشیءَ: کو مضبوط کرنا ــــ تِ القدمُ: قدم کا موٹا اور سخت ہونا۔ الأمرُ: مضبوط (مستحکم و سخت ہونا) ــــ السقاءَ: مشک کو مضبوط کرنا۔ تَکَّعَ الشیءُ: مضبوط ہونا۔ اِسْتَوْکَعَ الرجلُ: مضبوط معدے والا ہونا ــــ تْ معدتُهٗ: کا معدہ مضبوط ہونا ــــ ت الفراخُ: چوزے کا موٹا ہونا۔ الوَکِیع: مضبوط، سخت، آگے چلنے والی بکری۔ امرٌ وَکِیعٌ بمعنی مستحکم کام، معاملہ وغیرہ۔ المِیْکَع: مضبوط، سخت، مستحکم تھیلا۔ المِیکَعة جمع مَیَاکِع: ہل کا پھل۔

۳۔ وَکُعَ یَوْکُعُ وَکاعَةً: کمینہ ہونا۔ أوْکَعَ الرجلُ: کم بھلائی والا ہونا۔ کہا جاتا ہے وَکِیعٌ لَکِیعٌ و وُکُوعٌ لُکُوعٌ: کمینہ آدمی۔ الأوْکَع: کمینہ، احمق۔

وَکُعَ یَوْکُعُ وَکاعَةً: سخت ہونا، مضبوط ہونا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا یا قوی ہیکل ہونا۔ مِیکَعَة: ہل کا پھل، پھالی۔

وکف: ۱۔ وَکَفَ یَکِفُ وَکْفًا و وَکِیفًا و وُکُوفًا و وَکَفانًا و تَوْکافًا الدمعُ و نحوُهٗ: آنسو ٹپکنا ــــ البیتُ: گھر کی چھت ٹپکنا ــــ وَکْفًا و وَکِیفاتٍ العینُ الدمعَ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ أوْکَفَ إیکافًا الدمعُ او البیتُ: آنسو کا یا گھر کی چھت کا ٹپکنا۔ تَوَکَّفَ السطحُ: چھت کا ٹپکنا ــــ البیتُ: گھر کی چھت کا ٹپکنا۔ اِسْتَوْکَفَ اِسْتِیکافًا الماءَ: پانی ٹپکانا، جاری کرانا۔ الواکِف (فا): موسلا دھار بارش۔ الوَکَف جمع أوْکاف: پسینہ۔ سحابٌ وَکُوف: ہلکا ہلکا برسنے والا بادل۔

۲۔ وَکِفَ یَوْکَفُ وَکَفًا الرجُلُ: گناہ کرنا، ظلم و ناانصافی کرنا۔ وَکَّفَ الحمارَ: گدھے پر پالان ڈالنا ــــ الوِکاف: پالان بنانا۔ أکَّفَ و آکَفَ الحمارَ: گدھے پر پالان ڈالنا۔ أوْکَفَ إیکافًا ہٗ: کو گناہ میں ڈالنا۔ تَواکَفَ: انحراف کرنا۔ الوَکَف (مص) جمع أوْکاف: عیب، برائی (کہا جاتا ہے: هذا الأمرُ وَکَفٌ علیك: یہ بات تمہارے لئے عیب ہے) فساد، کمزوری، بوجھ، شدت، دامن کوہ۔ کہا جاتا ہے اِنّی لأخشی علیك و کفَ فلان: میں تجھ پر فلاں شخص کے ظلم و جور سے ڈرتا ہوں ــــ لیس علیك فی هذا الامر وکفٌ: تم پر اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں۔ فلانٌ علی وکفٍ من حاجته: فلاں شخص اپنی ضرورت کو نہیں جانتا۔ الوِکاف و الإکاف جمع وُکُف: عرق گیر، پالان۔

۳۔ واکَفَ مُواکَفَةً الرجُلَ فی الحرب و غیرها: جنگ وغیرہ میں کسی آدمی کی مخالفت کرنا یا کا مقابلہ کرنا۔ تَوَکَّفَ لفلان: کسی کے درپے ہو کر اسے پا لینا۔

۴۔ أوْکَفَ إیکافًا ت المرأةُ: عورت کا جننے کے قریب ہونا۔ تَوَکَّفَ الخبرَ: خبر کا انتظار کرنا ــــ الأثرَ: قدموں کے نشان کا کھوج لگانا۔

۵۔ الوُکْف: چمڑے کا بچھونا۔

وَکَفَ یَکِفُ وَکْفًا و وَکَفانًا: ٹپکنا، رِسنا، ناقص ہونا۔ وَکْف: رسنا، ٹپکنا، بحری جہاز میں چھید، سوراخ۔

وکل: وَکَلَ یَکِلُ وَکْلًا و وُکُولًا الیه الامرَ: کے سپرد کوئی کام کرنا ... إلی کذا: یہ کام مجھے کرنے دو۔ وَکَّلَ تَوْکِیلًا فلانًا: کو وکیل بنانا۔ اسم الوَکالَة و الوِکالة۔ واکَلَ وِکالًا و مُواکَلَةً القومُ: ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا، کا مطیع و فرماں بردار ہونا، وکیل بننا ــــ وِکالاتِ الدابَّةُ: جانور کا بری طرح چلنا۔ أوْکَلَ ایکالًا: سپرد کرنا، سونپنا ــــ باللّٰه: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ــــ العملَ علی فلان: کام مکمل طور پر کسی کے سپرد کرنا۔ تَوَکَّلَ: وکالت قبول کرنا ــــ لهٗ بالنجاح: کی کامیابی کا ذمہ دار ہونا ــــ بالامر: کا ذمہ دار ہونا ــــ علی اللّٰه: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ــــ فی الأمر: میں اپنی کمزوری ظاہر کرنا اور دوسرے پر اعتماد کرنا۔ اِتَّکَلَ علی اللّٰه: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ــــ فی امرہ علی فلان: اپنے معاملہ میں کسی پر اعتماد و بھروسہ کرنا۔ تَواکَلَ القومُ: ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ تَواکَلُوہُ: کو بغیر مدد کے چھوڑنا۔ تَواکلوا الکلامَ: کلام میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ کہا جاتا ہے اِستعنتُ القومَ فتواکلوا: میں نے قوم سے مدد چاہی تو انہوں نے مجھے ایک دوسرے کے حوالے کر دیا۔ الواکِل فا ــــ من الخیل: بغیر مارے نہ چلنے والا گھوڑا۔ الوُکَل و الوُکَلَة و التُّکَلَة و المُواکِل: وہ عاجز جو اپنے کاموں کو دوسرے کے سپرد کرے اور اس پر بھروسہ کرے۔ الوَکَل: کند ذہن، غبی، بزدل، عاجز۔ الوَکال و الوِکال: کمزوری، کند ذہنی، غباوت۔ الوَکالَة و الوِکالة جمع وَکالات: سپردگی، تفویض، اعتماد، بھروسہ۔ الوَکِیل جمع وُکَلاء: وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے، وہ شخص جس کو عاجز آدمی اپنا کام سپرد کر دے، بہادر، اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آئے تو اس کا معنی: رازق اور کفایت کرنے والا ہوتا ہے۔ التُّکلان: اعتماد، سپردگی، تفویض۔ المَوْکول مفع: کہا جاتا ہے هذا الامر موکول إلی رأیك: یہ کام تمہاری رائے کے سپرد ہے۔

وَکَلَ یَکِلُ وَکْلًا و وُکُولًا ہ الی: کو کے سپرد کرنا، کوئی کام کسی کو سونپنا، تفویض کرنا ــــ إلی ہ: کے سپرد کوئی کام کرنا، کو نگران بنانا۔ وَکَّلَ ہ: کو اختیار دینا، اجازت دینا، کو مختار کرنا، مجاز کرنا، کو نمائندہ یا ایجنٹ مقرر کرنا ــــ ہ ب: کو کا نگران بنانا ــــ ہ عن ب: کی بطور وکیل، پیروکار، مشیر قانونی یا مختار کسی معاملہ یا جھگڑے میں خدمات حاصل کرنا ــــ ہ فی: کو میں کامل اختیارات دینا، کو میں مختار بنانا ــــ ہ ب: کے سپرد کوئی کام کرنا۔ واکَلَ ہ: پر بھروسہ کرنا، کے

manarat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ساتھ خفیہ بنیاد پر ہونا، کے ساتھ باہمی اعتماد کی پوزیشن میں ہونا۔ اَوْکَلَ ہ الی: کے سپرد کوئی کام وغیرہ کرنا۔ تَوَکَّلَ: نمائندہ یا ایجنٹ کے طور پر تعینات ہونا، نمائندہ کے طور پر فرائض سرانجام دینا یا سنبھالنا۔ —— فی: میں بطور کمشنر، ایجنٹ یا مختار کے فرائض سر انجام دینا۔ —ب: کو ذمے لینا، کے لئے ذمہ دار ہونا، جواب دہ ہونا، کا ذمہ دار ہونا، کی ضمانت دینا۔ —— علی: پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ تَوَاکَلَ: ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، بے اعتنائی سے ردعمل کرنا، لاپروا ہونا، غیر فیصلہ کن ہونا۔ اتَّکَلَ علی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا۔ وَکِیل: باختیار نمائندہ، مختار، (بزنس) مینجر، ہیڈ کلرک، ڈپٹی، وائس (vice)، ایجنٹ، متولی، وکیل صنائی، وکیل، ٹیکنیکل سارجنٹ۔ وکیل الاحباس: اوقاف کا کمشنر۔ الوکیل الباوی: پاپائے روما کا سفیر، وکیل بُلُوك امین وکیل امین: کوارٹر ماسٹر کارپورل، وکیل وساشی وو کیل محارب: پرائیویٹ فسٹ کلاس۔ وکیل ساتجاویش: سٹاف سارجنٹ۔ وکیل جاویش: وکیل شاویش وو کیل مجاهد: سارجنٹ۔ وکیل ضابط: نان کمشنڈ آفیسر، کمپنی سارجنٹ میجر، ماسٹر سارجنٹ۔ وکیل الحق العام: تونس کی عدالتوں میں حکومتی کمشنر۔ وکیل قُنْصُل: وائس کونسل (vice consul)۔ وکیل مدیر: ڈپٹی ڈائریکٹر۔ وکیل الوزارة: انڈر سیکرٹری آف سٹیٹ۔ وُکَلَة: دوسروں پر بھروسہ کرنے والا، جو اپنے معاملات سرانجام دینے کے قابل نہ ہو۔ وَکَالَة جمع وَکَالات: نمائندگی، ڈپٹی شپ، مختار کا ذریعہ، کامل اختیار، مختار کا اختیار، انتظام، بندوبست دیکھ بھال، ایجنسی، سرائے، کارواں سرائے، ریسٹ ہاؤس۔ وکالة الانباء: نیوز ایجنسی، خبر رساں ایجنسی۔ وکالة الإشْهَار: ایڈورٹائزنگ ایجنسی۔ توکیل: نمائندہ، ایجنٹ، ڈپٹی یا مختار کے طور پر تقرر، اختیارات کی تفویض، اختیار، اجازت، مختار کا اختیار، کامل اختیار، مختار کا اجازت نامہ۔ تَوَکُّل: یقین، اعتماد، بھروسہ۔ تَوَاکُل: باہمی اعتماد یا یقین، بے اعتنائی، بے رخی، لاپروائی۔ اِتِّکَال: یقین، اعتماد، بھروسہ۔ مُوَکِّل: نمائندہ بنانے والا، گماشتہ مقرر کرنے والا، اختیار دینے والا، سر چشمہ۔ مُوَکَّل ب: کیلئے ذمہ دار، جواب دہ، کا نگران، کچھ سونپا ہوا۔

وکم: ا۔ وَکَمَ یَکِمُ وَکْماً الأمرُ فلاناً: معاملہ کا کسی کو غمگین کرنا۔ — فلاناً عن حاجته: کو اس کی حاجت سے سختی سے روکنا۔ —— کَمَةً الرجلُ من الشیء: سے گھبرانا، غمگین ہونا۔ الوَکْمَة: اسم مرة۔ المَوْکُوم: سخت غمگین۔

۲۔ وُکِمَت الأرضُ: زمین کا روندی ہوئی اور چری ہوئی گھاس والی ہونا۔

۳۔ الوَکْمَة: بہت درندوں والا جنگل۔

ج مُوْکِم: ناپسندیدہ، ناگوار یا دل کو دکھ پہنچانے والا (لفظ وغیرہ)۔

وکن: ا۔ وَکَنَ یَکِنُ وَکْناً و وُکُوناً الطائرُ بیضه او علی بیضه: پرندے کا انڈے سینا۔ صفت: وَاکِن جمع وُکُون مونث وَاکِنَة جمع وُکُون ووَاکِنات۔ —— الطائرُ: پرندے کا گھونسلے میں جانا۔ — وَکْناً الرجلُ: بیٹھنا۔ تَوَکَّنَ الرجلُ: مجلس میں اچھی طرح تکیہ لگانا، مضبوط ہونا، بااختیار ہونا۔ الوَاکِن مونث وَاکِنَة: بیٹھنے والا۔ —— من الطیر: دیوار، لکڑی یا درخت پر وارد ہونے والا پرندہ۔ الوُکْن جمع اَوْکُن و وُکُن ووُکُون و الوُکْنة والوِکنة و الوُکُنَة و الوُکُنة جمع وُکْنات ووُکُنات ووُکَنَات ووُکَن: گھونسلا۔ المَوْکِن: وہ جگہ جہاں انڈے ہوں۔ — والمَوْکِنَة: گھونسلا۔

۲۔ وَکَنَ یَکِنُ وَکْناً الرجُلُ: تیز چلنا۔

وکی: وَکَی یَکِی وَکْیاً القربة: مشک کو بندھن سے باندھنا۔ وَکَّی الفرسُ المیدانَ جریاً: گھوڑے کا پورے میدان میں بھاگنا۔ وَاکَی مُوَاکَاةً و وِکَاءً: دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانا۔ اَوْکَی ایکاءً القربةَ و علی ما فی القربة: مشک کو بندھن سے باندھنا۔ — الرجُلُ: بخل کرنا۔ (کہا جاتا ہے: سألناه فأَوْکَی علینا: ہم نے اس سے مانگا تو اس نے ہم سے بخل کیا) تیز دوڑنا۔ —— الفرسُ المیدان جَرْیاً: گھوڑے کا پورے میدان میں دوڑنا۔ اِسْتَوْکَی الوعاءُ: برتن کا بھر جانا۔ —— البطنُ: قبض ہونا۔ الوِکَاء جمع اَوْکِیة: مشک وغیرہ کو باندھنے کی چیز، بندھن، برتن وغیرہ کا منہ باندھنے کی چیز۔ المُوکی (مفع): بندھے ہوئے منہ کی مشک۔

ج وَکَی یَکِی ہ: مشک وغیرہ کو باندھنا۔ الوِکَاء جمع اَوْکِیة: مشک یا تھیلا باندھنے کا تسمہ یا ڈوری، رسی، تلی وغیرہ۔

ولّ: وَلْوَلَ وَلْوَلَةً و وَلْوَالاً ت المرأةُ: عورت کا واویلا کرنا، گریہ زاری کرنا۔ — ت القوسُ: کمان کا آواز کرنا۔

۲۔ الوَلْوِیتْشِیَا (ن): جنوبی افریقہ کے بعض علاقوں میں اگنے والی نباتات جس کے بیج ننگے ہوتے ہیں، اس کا تنا زمین پر تھوڑا سا نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ موٹا ہو جاتا ہے۔

ولب: ا۔ وَلَبَ یَلِبُ وُلُوباً: داخل ہونا، جلدی کرنا۔ — اِلیكَ الشیءُ: چیز تم تک پہنچی، جو کچھ بھی تھی۔ الوَالِب: کسی چیز میں جانے اور داخل ہونے والی (چیز)۔

۲۔ الوَالِبَة: کھیت کی روئیدگی۔ من القوم او المواشی: اولاد، نسل، (لوگوں یا مویشیوں کی)۔

ولت: وَلَتَ یَلِتُ وَلْتاً و اَوْلَتَ فلاناً حقَّهُ: کا حق گھٹانا۔

ولث: ا۔ وَلَثَ یَلِثُ وَلْثاً له عهداً: سے کمزور وعدہ کرنا۔ —— فلانٌ: کسی کا غلام سے کہنا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ الوَلْث: کچا عہد۔

۲۔ وَلَثَ یَلِثُ وَلْثاً فلاناً بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ — تْنَا السماءُ: آسمان نے ہم پر تھوڑی بارش کی۔ الوَلْث (مص): تھوڑی بارش، برتن میں نبیذ کا بچا ہوا حصہ، آشوب چشم کا اثر۔

ولج: وَلَجَ یَلِجُ وُلُوجاً و لِجَةً البیتَ و وَلَجَ الشیءُ فی غیره: گھر میں داخل ہونا ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔ وُلِجَ الرجُلُ: پیٹ کی بیماری والا ہونا۔ وَلَّجَهُ و وَلَّجَ الیه الأمرَ فتَوَلَّجَهُ: معاملہ کو کسی کے سپرد کرنا اور معاملہ اس کے سپرد ہو جانا۔ —— المالَ: سائلیں کے سوال سے بچنے کیلئے اپنی زندگی میں مال اپنی اولاد میں سے کسی کو دے دینا۔ اَوْلَجَ اِیْلاجاً و اتَّلَجَ اِتْلاجاً هُ: کو داخل کرنا۔ تَوَلَّجَ تَوَلُّجاً و اِتَّلَجَ اِتِّلاجاً الیه و فیه: میں داخل ہونا۔ الوَالِجَةُ: سانپ، درندے (طب): پیٹ کا درد۔ الوَلَج: ریت کا راستہ۔ الوُلُج: وِلاج کا جمع: اطراف ونواحی کوچے، گلیاں، شہد کھانے کے چھجے۔ الوَلَجَة جمع اَوْلاج و وَلَج و وَلَجات: داخل ہونے کی جگہ، وادی کا موڑ، وہ غار جس میں راہ گیر بارش وغیرہ سے پناہ لیں۔ الوُلَجَة و الوَلُوج: بہت داخل ہونے والا۔ کہا جاتا ہے: وَلُوجٌ خَرُوجٌ: بہت داخل ہونے والا اور بہت نکلنے والا۔ الوِلاج جمع وُلُج و وُلُوج: دروازہ، وادی، پست زمین۔ الوَلّاج: بہت داخل ہونے والا۔ الوَلِیجَة: آدمی کا باطن، بھیدی، راز دار، قوم کے ساتھ چمٹا رہنے والا اجنبی۔ (کہا جاتا ہے: هو وَلِیجَتُهم: وہ ان کا راز دار ہے، محرم ہے یا ہمراز ہے) وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ رہے مگر ان میں سے نہ ہو۔ التَّوْلَج (ح): عقاب

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کا چوزہ۔ التَوْلَج وحشی جانوروں کے رہنے کی جگہ۔ المَوْلِج جمع مَوَالِج داخل ہونے کی جگہ۔

○ وَلَجَ یَلِجُ وَ لِجَۃً وُلُوجا ہ یا اِلی میں داخل ہونا، کے آر پار ہو جانا۔ ولج الباب: دروازے سے اندر جانا۔ اَوْلَجَ ہ فی کو میں داخل کرنا، کو میں رائج کرنا، کو میں ڈالنا، کو میں بڑھانا، کو میں ٹھونسنا۔ تَوَلَّجَ: بمعنی ولج نیز تَوَلَّجَ ہ میں مشغول ہونا، کو اپنے ذمہ لینا، کی ذمہ داری اٹھانا۔ وُلُوج: داخل ہونا، داخلہ۔ وَلِیجَۃ جگری دوست، راز دار، ہمدم، ہمراز، معتمد علیہ، دل کی گہرائی۔ ایلاج: درج کرنا، شمولیت، داخل کرنا، شامل کرنا، ڈالنا، ٹھونسنا۔ مَوْلِج دروازہ رستہ، باریابی، رسائی۔

ولح: وَلَحَ یَلِحُ وَلْحاً الدابّۃ جانور پر اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ الوَلْحَۃ ولاح اور ولیح کا واحد: بوری۔

ولخ ۱۔ وَلَخَ یَلِخُ وَلْخاً ذ کو تھپڑ مارنا۔

۲۔ اَوْلَخَ العشبُ گھاس کا دراز اور موٹی ہونا۔ اِئْتَلَخَ الأمرُ معاملہ کا خلط ملط ہونا، گڈمڈ ہونا۔ اِسْتَوْلَخَ استیلاخاً تِ الأرضُ زمین کا تر ہونا۔ الوَلَخُ من العشب: لمبی گھنی گھاس۔ ارضٌ وَلِخَۃ: گھنی گھاس والی زمین۔ الوَلِیخ السی کا کپڑا۔ الوَلِیخَۃ: جما ہوا گاڑھا دودھ، کیچڑ، ارضٌ وَلِیخَۃٌ و مُوتَلَخَۃ گھنی گھاس والی زمین۔

ولد وَلَدَ یَلِدُ لِدَۃً و وِلادًا و وِلادَۃً و الادَۃً و مَولِداً تُ الأنثی (مادہ کا) جننا۔ صفت: والِد و والِدَہ۔ ۔تِ الارضُ النباتَ زمین کا نباتات اُگانا۔ وَلَّدَ الوَلَدَ: بچہ کی پرورش کرنا، کو پالنا۔ ــــ الشیءَ من الشیء: ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا۔ الکلامَ او الحدیثَ کلام یا بات کو نیا بنانا۔ ــــ القابلۃُ المرأۃَ: دایہ کا عورت سے بچہ جنوانا، دایہ کا بچہ جننے میں عورت کی مدد کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَلَّدَ الرجلُ غنمہُ آدمی نے اپنی بھیڑ بکریوں کے بچے نکلوائے، جنوائے جس طرح کہا جاتا ہے۔ نَتَّجَ اِبلَہُ اس نے اپنی اونٹنیوں کے بچے نکلوائے جنوائے) اَوْلَدَ ایلاداً تِ المرأۃُ: عورت کے بچہ جننے کا وقت قریب آجانا۔ ــــ الشاۃُ: بکری کا بچہ جننا صفت: مُولِد جمع مَوَالِد و مَوَالِید۔ تَوَلَّدَ الشیءُ من غیرہ: چیز کا دوسری شے سے پیدا ہونا۔ تَوَالَدَ و اِتَّلَدَ القومُ: قوم کا کثیر ہونا، ایک کا دوسرے کو پیدا کرنا۔ اِسْتَوْلَدَ المرأۃَ عورت کو حاملہ کرنا۔ ــــ فلانٌ: بچے کا خواہاں ہونا۔ الوالِد جمع والدُون: باپ۔ شاۃ والد جمع وُلْد حاملہ بکری۔ الوالِدان باپ اور ماں۔ الوالِدۃ جمع والدات ماں۔ اللِدَۃ (مص) پیدائش کا وقت، (کسی کے ساتھ) ایک ہی وقت میں پیدا ہونے یا پرورش پانے والا (اصل میں وِلد ہے) آپ کہتے ہیں: فلان لِدَتِی وہ میرا ہم عمر ہے۔ مُثنی: لِدان جمع لِدات و لِدُون تصغیر وُلَیدات و وُلَیدُون۔ الوَلَد و الوُلْد والوِلد و الوَلْد بچہ (مذکر مونث تثنیہ جمع سب کیلئے) کبھی جمع لا کر اولاد اور وِلْدَۃ۔ اِلْدَۃ اور وُلْد کہتے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں: لا ادری ایّ ولد الرجل ھو میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ الوَلّادَۃ: والدہ کے لئے مبالغہ کا صیغہ۔ الوَلُود من الشاء جمع وُلْد جننے والی بکری، بہت جننے والی بکری۔ الوُلُودِیَّۃ و الوَلُودِیَّۃ بچپن۔ سختی طبیعت، نادانی، جفا۔ الوَلِید جمع وِلْدَۃ و وِلدان مونث وَلِیدَۃ جمع وَلائد: پیدا شدہ، بچہ، غلام۔ اُمُ الوَلِید: مرغی۔ کہا جاتا ہے: فعل ذلک فی وَلِیدِیَّتِہ: اس نے یہ کام اس حالت میں کیا جب وہ بچہ تھا۔ المَولِد (مص) جمع مَوَالِد: پیدائش کی جگہ یا وقت۔ المُوَلِّد: جزیٹر، ڈینمو۔ المُوَلَّد (مفع): نیا پیدا شدہ۔ المُوَلَّدون: مابعد کلاسیکی اور حالیہ شعراء، ادباء و مصنفین۔ رجُلٌ مُوَلَّدٌ و کلامٌ مُوَلَّدٌ: دوغلا آدمی، مابعد کلاسیکی لفظ، زبان یا اظہار، نیا لفظ۔ المُوَلِّدَۃ دائی۔ المُوَلَّدَۃ. نئی پیدا شدہ چیز۔ کہا جاتا ہے: جاء نا بِبَیِّنَۃٍ مُوَلَّدَۃٍ: وہ ہمارے پاس بناوٹی دلیل لایا۔ المَوْلُود (مفع) جمع مَوَالِید چھوٹا بچہ۔ المِیلاد: پیدائش کا وقت۔ عیدُ المیلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی عید، عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام۔

○ وَلَدَ یَلِدُ وِلادَۃً و لِدَۃً و مولِدًا ہ کا باپ بننا، باعث ہونا، بنانا، پیدا کرنا، بچہ پیدا کرنا، نسل بڑھانا، جننا۔ ــ د بچہ جننا، بچہ پیدا کرنا۔ ــ ہ کو بنانا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، پھل دینا۔ ولدت منہ: عورت کا مرد سے بچہ ہونا۔ وَلَّدَھا عورت کو بچہ جننے میں مدد دینا (دایہ کا)۔ ــ ہ من کو سے بنانا، پیدا کرنا، وجود میں لانا، تخلیق کرنا۔ ــــ ہ کا باعث ہونا، کی صورت پیدا کرنا، کو پیدا کرنا، کو پالنا، کسی کی نسل کشی کرنا، کو پالنا پوسنا، کی تربیت کرنا، کی ضرورت کا باعث بننا، کی پرورش کرنا۔ اَوْلَدَھا عورت سے بچے پیدا کرانا۔ تَوَلَّدَ: پیدا ہونا۔ ــ من: کی نسل سے ہونا، سے پیدا ہونا، سے جننا، بچے پھل دینا، پھیلانا، کے باعث ہونا، سے وجود میں آنا، سے ہونا، سے بڑھنا، پھلنا یا تکمیل کو پہنچنا، کا نتیجہ ہونا، سے نتیجہ نکلنا، کا انجام ہونا۔ تَوَالَدَ نسل بڑھنا۔ اِسْتَوْلَدَ: بچے چاہنا۔ ــ ہ من. کی سے نسل چاہنا، کو سے پیدا کرنا چاہنا۔ وَلَد جمع اَوْلاد و وُلْد: اولاد، خلف، نسل، بچہ، چشم و چراغ، نونہال، بیٹا، لڑکا، نوجوان جانور، (جمع) بچے، آل اولاد، نسل۔ ولد الزنا: ناجائز بچہ یا اولاد، حرامی، حرام زادہ۔ ولدُ المُلاعَنَۃ: بچہ جس کی ولدیت لِعان کے ذریعہ طے کی جائے۔ وَلْدَۃ: بچہ کی پیدائش، پیدائش۔ ولدت اثنین فی ولدۃ: اس نے یک وقت دو بچوں کو جنم دیا۔ لِدَۃ: بچہ کی پیدائش، پیدائش جمع لِدُون ولِدات: ہمعمر، ہم عصر۔ وِلادَۃ: جننا، زائدگی، بچہ کی پیدائش، پیدائش، حالت زچگی، تولید، وضع حمل۔ ولادۃ مُعَجَّلَۃ: قبل از وقت پیدائش۔ حدیث الولادۃ: نومولود۔ عِلمُ الولادۃ: قابلہ گیری، دایہ گیری۔ وَلّادَۃ: اکثر بچے دینے والی، کئی بچے پیدا کرنے والی، ہری گود والی، بچے دے سکنے والی، نسل پھیلانے والی، بچے پیدا کرنے والی۔ وَلُود: بمعنی وَلّادۃ۔ وُلُودِیَۃ: بچوں کا سا مزاج، طفل مزاجی، بچپن، چھچھورا پن۔ وَلِید جمع وِلدان: نومولود بچہ، لڑکا بیٹا، نوجوان، نیا۔ ولیدُ ــــ: کی پیداوار، کا نتیجہ، سے اچانک آیا ہوا، سے نکلا ہوا، کا باعث۔ ولیدُ ساعتہ: جھٹ پٹ یا وقتی جذبہ کے تحت سوچا یا تصور کیا ہوا (خیالی، منصوبہ وغیرہ)۔ وَلِیدَۃ جمع وَلائِد: نومولود لڑکی، لڑکی، پیداوار۔ وُلَید چھوٹا بچہ۔ مَوْلِد جمع مَوَالِد: جائے پیدائش، یوم پیدائش، سالگرہ، ولی وغیرہ کا یوم پیدائش۔ المولدُ النبوی یا مولد النبیؐ: رسول اللہ کا یوم پیدائش۔ لُغَۃُ المولِد مادری زبان، ملکی زبان۔ مِیلاد جمع مَوَالِید: پیدائش، پیدائش کا وقت، ولادت، یوم پیدائش جمع مَوَالِید: عمر کے طبقے، عمر کے گروپ۔ عیدُ المیلاد: کرسمس christmas یا xmas، میلاد مسیح، عیسائیوں کا بڑا دن۔ قبل میلاد المسیح یا قبل المیلاد: حضرت عیسیٰ مسیح سے پہلے (BC)۔ نُقْصانُ الموالید گرتی ہوئی شرح پیدائش۔ میلادِی: حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے متعلق، حضرت عیسیٰؑ کے بعد (A.D.)۔ سنۃ میلادیہ: سن عیسوی۔ تَوْلِید: پیدا کرنا، بنانا، دایہ گیری، دایہ گیری، قابلہ گیری، بچہ جننے کے وقت مدد، تولید، وضع حمل۔ دار التولید: و مَصَحَّۃ للتولید: زچہ ہسپتال (maternityhome)۔ فن التولید: دایہ گیری، دایہ گری، قابلہ گیری۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مُعْمَلُ (یا محَطّة) تولید القوة الکهربائیة: برقی قوت کا مرکز۔ تولید الهلال: رمضان کے پہلے دن نئے چاند کا نمودار ہونا۔ تَوَلُّد: پیدائش، تخلیق، پیداوار۔ استیلاد: بمعنی تولد۔ وَالِد: باپ۔ وَالِدان: باپ اور ماں۔ وَالِدَة جمع وَالِدات: ماں، زچہ۔ وَالِدِی: باپ کا باپ کی طرف سے۔ مَوْلُود: بنایا ہوا، پیدا کیا ہوا، دنیا میں آیا ہوا، پیدائش، یوم پیدائش جمع مَوَالِید: نومولود بچہ، شیرخوار بچہ، بچہ، بیٹا جمع مَوَالِید: تخلیقات، بہت سی اچھی اور سستی چیزیں۔ المَوالید الثلاثة: فطرت کی تین حکومتیں۔ مُوَلِّد: پیدا کرنے والا، بنانے والا، طاقت تولید رکھنے والا، پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، افزائش نسل کرنے والا، بزرگ، جد، مورث، پدر، وضع حمل کا ماہر طبیب جمع مُوَلِّدات: جنریٹر (generator)۔ مُوَلِّدُ التّیار او مولد کَهْرَبائی: جنریٹر، ڈینمو۔ مولد التیار المتناوب: اے سی کرنٹ جنریٹر، الٹی رو والا برق ساز، اے سی ڈینمو۔ مُوَلِّدُ الحموضة: آکسیجن۔ مُوَلِّد الماء: ہائیڈروجن۔ مُوَلِّد ذرّی: ایٹمی ری ایکٹر (atomic reactor)۔ مُوَلِّدَة: جمع مُوَلِّدات: دائی، دایہ۔ مُوَلَّد: پیداشدہ، بنایا ہوا، پیدا کیا ہوا، پالا پوسا ہوا، عربوں میں پیدا اور پروان چڑھنے والا (جو خالص عربی النسل نہ ہو)، جو صحیح معنی میں قدیم عربی نہ ہو، اور بعد میں اس زبان میں رائج ہوا ہو، مابعد کلاسیکی (خصوصاً لفظ)، دوغلا جمع مُوَلَّدات: پیداوار اور جمع المُوَلَّدُون: بعد کلاسیکی (نیز جدید) عرب شعراء، ادباء و مصنفین۔ وِلْدَنَة: بچپن، بچگانہ چال، چھچھوراپن۔

ولذ: وَلَذَ یَلِذُ وَلْذًا الرجُلُ: جلدی جلدی چلنا، تیزی سے حرکت کرنا۔

ولس: ا۔ وَلَسَ یَلِسُ وَلُسًا وَلَسَانًا تِ الابلُ: اونٹوں کا تیز دوڑنا صفت: وَلُوس۔

۲۔ وَلَسَ یَلِسُ وَلْسًا الرجُلَ: کو دھوکا دینا، کی خیانت کرنا۔ ۔۔ الحدیثَ: کنایۃ سے بات کرنا، واضح طور پر کچھ نہ کہنا۔ وَالَسَ مُوَالَسَةً ہ: کو فریب دینا، سے مداہنت کرنا۔ ۔۔ وَاَوْلَسَ بالحدیث: کنایہ سے بات کرنا، واضح طور پر کچھ نہ کہنا۔ تَوَالَسَ القومُ علیه: کے خلاف دھوکے اور خیانت میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا۔ الوَلّاس: بھیڑیا۔ وَالَسَ: منافقت کرنا۔ ۔۔ ہ: کے ساتھ دورخی سے کام لینا۔ ۔۔ ب: کسی بات کو خلاف واقعہ بیان کرنا، کی غلط تصویر پیش کرنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے بارے میں غلط بیانی کرنا۔ وَلْس: دھوکا، فریب، دغا، جل، چھل، دھوکا بازی، دغا بازی، عیاری، چالاکی، دورخی، فریب کاری۔ مُوَالَسَة: بمعنی وَلْس۔

☾ وَلْط: وولٹ (volt)۔

ولع: ا۔ وَلَعَ یَلَعُ وَلْعًا بحقه: کا حق تلف کرنا۔ کی حق تلفی کرنا۔ ۔۔ وَلْعًا و وَلَعَانًا: جھوٹ بولنا، دوڑنے میں ہلکا پھلکا ہونا۔ کہا جاتا ہے: ما اَدْرِی ما وَلَعَهُ: مجھے معلوم نہیں کہا سے کس چیز نے روک لیا۔ وَلِعَ یَوْلَعُ وَیَلَعُ وَلَعًا و وُلُوعًا و تَوَلَّعَ به: سے محبت کرنا، پر شیفتہ ہونا۔ وَلِعَ به: سے محبت کرنا، سے لگاؤ رکھنا، کا اشتیاق رکھنا۔ وَلَّعَ ہُ بفلان: کو کسی محبت پر اکسانا۔ ۔۔ النارَ: آگ جلانا۔ اَوْلَعَ اِیلاعًا فلانًا بکذا: کو کا محب بنانا، کا سے لگاؤ رکھوانا، کی محبت پر اکسانا۔ اُولِعَ به: سے محبت کرنا، سے لگاؤ رکھنا۔ کہا جاتا ہے: اِتَّلَعَ فلانًا و العةٌ: اس کا حال مجھ سے مخفی ہے، مجھے معلوم نہیں وہ مرگیا یا زندہ ہے۔ اِئْتَلَعَ فلانٌ قلبی: فلاں شخص نے میرا دل چھین لیا۔ الوَالِع (فا) جمع وَلَعَه مونث وَالِعَة: جھوٹا۔ وَلَّعٌ وَالِعٌ: بڑا جھوٹ، زبردست جھوٹ۔ الوَلْع (مص): جھوٹ۔ الوَلِع: بہت محبت کرنے اور لگاؤ رکھنے والا۔ الوَلَعَة عند العامة: (عام لوگوں کے نزدیک) جلتی ہوئی لکڑی۔ الوُلَعَة: لایعنی بات کا شوقین یا متجسس۔ اللّاعَة و الوُلُوع: بہت محبت کرنے اور لگاؤ رکھنے والا۔ المُوتَلَعُ القلب و المُتَّلَعُ القلب: آشفتہ دل۔

۲۔ وَلَّعَ الثورُ: بیل کا دھاریدار ہونا۔ ۔۔ جَسَدَهُ: کے جسم کو سفید داغوں والا بنانا۔ الوَلِیع: واحد وَلِیعَة۔ کھجور کا پھول جو غلاف میں ہو۔ المُوَلَّع (مفع): برص والا۔ ۔۔ من الدوابّ: دھاریدار جانور۔

☾ وَلِعَ یَوْلَعُ وَلَعًا و وُلُوعًا: آگ لگنا، جلنا۔ ۔۔ ب: سے محبت کرنا، سے لگاؤ رکھنا، کا دلدادہ ہونا، کے ساتھ بے حد پیار کرنا، کے پیچھے پاگل، سودائی یا دیوانہ ہونا، کے بارے میں مخبوط ہونا، کیلئے پرجوش ہونا، کے بارے میں سرگرم ہونا۔ وَلَّعَ ہ: کو جلانا، روشن کرنا، کو آگ لگانا۔ ۔۔ ہ ب: کو کا مشتاق بنانا، کسی کی خواہش کو کیلئے برافروختہ کرنا، کو پر فریفتہ کرنا، کو کا گرویدہ بنانا۔ اَوْلَعَ: بمعنی وَلَّعَ۔ اُولِعَ ب: کا دلدادہ ہونا، پر فریفتہ ہونا، کا گرویدہ ہونا، کیلئے ہمہ تن نذر ہو جانا، میں کلیۃً لگ جانا، پر بری طرح مائل ہونا، سے محبت کرنا۔ تَوَلَّعَ: بمعنی وَلِعَ۔ وَلَع: جذباتی محبت، سرگرم خواہش یا تمنا، طلب، خواہش، عشق، بے حد شوق۔ وَلِع: پاگل پن سے محبت کرنے والا۔ وُلُوع: لالچ، حرص، طلب، خواہش، محبت، سرگرم خواہش یا تمنا۔ وَلّاعَة: (سگرٹ) لائٹر۔ تَوَلُّع: پرجوش یا جذباتی محبت، سرگرم خواہش یا تمنا، طلب، خواہش، بے حد شوق۔ مُولَع ب: سے محبت کرنے والا، پر بری طرح مائل، کے پیچھے پاگل، کا دیوانہ، کا پرجوش دلدادہ پر فریفتہ، کا گرویدہ، کے متعلق سرگرم یا پرجوش، کیلئے پرجوش۔

ولغ: وَلَغَ یَلَغُ و وَلِغَ یَلِغُ و یَوْلَغُ و یَالَغُ وَلْغًا وُلُغًا و وُلُوغًا و وَلَغَانًا الکلبُ الإناءَ و فی الأناء: کتے کا برتن میں منہ ڈالنا اور زبان سے اس میں پڑی چیز کو چپڑ چپڑ پینا، چاٹنا۔ اَوْلَغَ اِیلاغًا الکلبَ: کو پلانا۔ الوَلْغَة: اسم مرۃ، چھوٹا ڈول۔ الوَلُوغ: چاٹنے یا چپڑ چپڑ کر کے پینے والی چیز۔ المِیلَغ و المِیلَغَة جمع مَیَالِغ: کتے کے کچھ پینے یا چاٹنے کا برتن۔ المُسْتَوْلَغ مِن الناس: عزت کی پرواہ نہ کرنے والا۔

☾ وَلَغَ یَلَغُ وَلْغًا و وُلُوغًا: چاٹنا، چپڑ چپڑ کر کے پینا (خصوصاً کتے کا)۔ ۔۔ فی: کو بے عزت کرنا، کی بے حرمتی کرنا۔ وَلَغَ فی الدم: خون چکھنا، خونخوار ہو جانا، خون کا پیاسا ہو جانا۔

ولف: وَلَفَ یَلِفُ وَلْفًا و وِلافًا و اِلافًا و وَلِیفًا البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا۔ ۔۔ وَلِیفًا القومُ: سب لوگوں کا اکٹھا آنا۔ وَالَفَ وِلافًا و مُوَالَفَةً ہ: سے محبت کرنا، سے مل جانا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تَوَالَفَ مُوَالَفَةً و وِلافًا الشیئان: ایک دوسرے سے الفت کرنا۔ الوِلْف: ساتھی، دوست۔ الوِلاف (مص): ایک قسم کی دوڑ جس میں ٹانگیں زمین پر اکٹھی پڑتی ہیں۔ الوُلُوف: لگاتار چمکنے والی بجلی۔ الوَلِیف: ایک قسم کی دوڑ جس میں ٹانگیں زمین پر ایک ساتھ پڑتی ہیں، لگاتار چمکنے والی بجلی، دوستی، انس، محبت۔

ولق: وَلَقَ یَلِقُ وَلْقًا فی السیر: تیز چلنا۔ ۔۔ ہ بالرمح: کو ہلکے سے نیزہ مارنا۔ ۔۔ ہ بالسیف: کو تلوار مارنا۔ ۔۔ الحدیثَ: بات پھیلانا، گھڑنا۔ ۔۔ عینَهُ: کی آنکھ پر مار کر اسے پھوڑ دینا۔ ۔۔ فی کذبه او سیره: جھوٹ بولتے رہنا، چلتے رہنا۔ اَوْلَقَ ایلاقًا و اُلِقَ اَلْقًا: پاگل ہونا صفت: مَاْلُوق و مُؤَوْلَق۔ الأَوْلَق: پاگل پن۔ الوَلَقَی: اونٹنی کی سخت اور کودنے والی دوڑ۔ ناقةٌ وَلَقَی: تیز رفتار اونٹنی۔ الوَلِیقَة (ط): آٹے دودھ اور گھی سے تیار

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کردہ کھانا۔

ولم: اَوْلَمَ اِيْلامًا: ولیمہ کرنا۔ ــ فلانٌ: خلقت یا اخلاق وعقل میں مکمل ہونا۔ الوَلْم و الوَلَم: بند، گھوڑے یا اونٹ کا تنگ۔ الوَلْمة: سب کا سب، چیز کا اجتماع۔ الوَلِيمة جمع وَلائم: شادی کی خوشی کی دعوت، خاص یا بڑی ضیافت۔

ولن: تَوَلَّنَ الرجُلُ: مصیبت کے وقت بلند آواز سے چلانا۔

وله: وَلَهَ يَلِهُ وَلَهًا: کی زیادتی غم سے عقل زائل ہونے کے قریب ہونا، شدت غم سے متحیر ہونا صفت: وَالِه و الِهٌ و وُلْهان مؤنث وَالِه و وَالِهةٌ و وَلْهَى۔ ــ الصبيُّ الى امّه: بچہ کا ڈر کر ماں کی طرف لپکنا۔ ــ ت الأمّ الى ولدها: ماں کا بچے کا مشتاق ہونا، آرزو مند ہونا، بچہ کی خواہش کرنا۔ ــ منْ: سے ڈرنا۔ وَلَهَ [illegible] الرجلَ: کو زیادتی غم میں ڈالنا۔ ــ المرأة: ماں کو بچہ سے جدا کرنا۔ ــ و اَوْلَهَ الحزنُ او الوجدُ فلانًا: غم کا کسی کو سرگشتہ وحیران کرنا۔ اِتَّلَهَ: کی شدت غم سے عقل زائل ہونے کے قریب ہونا، غم کی زیادتی سے متحیر ہونا۔ ــ النبيذُ فلانًا: نبیذ کا کسی کو مدہوش کرنا۔ اِسْتَوْلَهَ اِسْتِيْلاهًا: بدحواس ہونا۔ المُوْلَهُ (ح): مکڑی۔ ماءٌ مُوْلَهٌ و مُوَلَّهٌ: بیابان میں چھوڑا ہوا پانی۔ المِيْلَه: ویران کن ریگستان۔ المِيْلاه: سخت ہوا۔ امرأةٌ ميلاهٌ: بچہ کی موت پر سخت غم وصدمہ کرنے والی عورت۔

○ وَلَهَ يَلِهُ و وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهًا: گھبرا جانا، ہواس قائم نہ رہنا، (محبت، رنج وغیرہ سے) پاگل ہو جانا، کا توازن قائم نہ رہنا۔ وَلَّهَ و اَوْلَهَ ہُ: کو پاگل کر دینا، سخت گھبراہٹ میں ڈال دینا، کو بدحواس کر دینا۔ تَوَلَّهَ: بمعنی وَلِهَ نیز تولّه ب: پر لٹو ہونا، فریفتہ ہونا۔ وَلَه: جنون، پاگلپن، سخت گھبراہٹ، دوران سر، جلد بازی، تکلیف اضطراب، پر جوش محبت، عاشقانہ وجد۔ وَلْهان: جنونی، پاگل، پریشان، گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا، حیران، بدحواس، جس کا سر چکرا گیا ہو، جلد باز، سرگرم محبت کرنے والا۔ تَوَلُّهٌ: پاگل پن، جنون سخت گھبراہٹ، دوران سر، جلد بازی، فریفتگی، شیفتگی۔ وَالِه: جنونی، پاگل، گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا، حیران، بدحواس، جس کا سر چکرا رہا ہو، جلد باز، صدمہ کا مارا ہوا، سخت رنجیدہ۔ مُتَوَلِّه: پاگل، مجنون، گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا، حیران، بدحواس، جس کا سر چکرا رہا ہو، جلد باز۔

ولي: وَلِيَ يَلِي وَلْيًا فلانًا: کے قریب ونزدیک ہونا، بغیر فاصلہ کے، کے پیچھے پیچھے جانا۔ کہا جاتا ہے: جلستُ مما يليه: میں اس کے قریب بیٹھا۔ ــ يَلِي وَلْيًا فلانًا: کے قریب ونزدیک ہونا، بغیر فاصلہ کے کے پیچھے پیچھے جانا۔ ــ وِلايةً و وَلايةً الشيءَ و عليه: پر حاکم مقرر ہونا، متصرف ہونا۔ ــ الرجلَ و عليه: کو مدد دینا، کی مدد کرنا۔ ــ البلدَ: شہر یا ملک پر تسلط پانا۔ ــ وَلايةً الرجلَ: سے محبت کرنا۔ وُلِيَ المكانُ: جگہ کا موسم بہار کی بارش سے سیراب ہونا۔ وَلّى تَوْلِيَةً فلانًا الامرَ: کو کا والی مقرر کرنا، کو کا انتظام سپرد کرنا۔ ــ ہُ كذا: کو کے پیچھے کرنا۔ ــ ہ ظهرَہُ: کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کرنا۔ ــ الشيءَ و عن الشيء: سے اعراض کرنا، دور ہونا، منہ پھیرنا۔ ــ هاربًا: پیٹھ دے کر بھاگنا۔ ــ الرُّطَبُ: کھجوروں کا پیلا ہونے لگانا۔ ــ عن زيدٍ بوُدّہ: کی دوستی سے منہ پھیرنا۔ وَالَى وِلاءً و مُوَالاةً الرجلَ: سے دوستی کرنا، کی مدد کرنا۔ ــ الشيءَ: کو لگاتار کرنا۔ ــ الغنمَ: بکریوں کو الگ الگ کرنا۔ ــ بين الأمرين: کو پے درپے کرنا۔ اَوْلَى اِيْلاءً فلانًا الأمرَ: کو کسی معاملہ کا والی مقرر کرنا۔ اولاہُ معروفًا: پر احسان کرنا۔ تعجب کے وقت کہتے ہیں: ما أولاہُ للمعروف: وہ کس قدر محسن ہے! (ثلاثی مزید فیه سے ہونے کی وجہ سے خلاف قاعدہ ہے)۔ ــ ہُ علی اليتيمِ: کو یتیم کے بارے میں وصیت کرنا۔ تَوَلّى تَوَلِّيًا الأمرَ: کی ذمہ داری لینا، کو کرنا۔ ــ فلانًا: کو ولی مقرر کرنا۔ ــ عنه: سے روگردانی کرنا، کو چھوڑ دینا۔ ــ هاربًا: پیٹھ دے کر بھاگ جانا۔ ــ الشيءَ: سے لازم ہونا۔ ــ الرُّطَبُ: تازہ کھجور کا خشک ہونے لگنا۔ ــ علیّ بودّہ: سے دوستی بدل دینا۔ تَوَالَيَا: پے درپے ہونا۔ کہا جاتا ہے: توالت الغنمُ عن المعز: بکریوں کا نمایاں ہونا، ممیز ہونا۔ اِسْتَوْلَى استيلاءً عليه: پر غالب ہونا، قدرت پانا۔ ــ على الغاية: انتہا کو پہنچنا۔ ــ على الشيء: پر قبضہ کرنا۔ الوالِي جمع وُلاة فا ــ والى البلد: شہر پر قابض، شہر کا حاکم۔ الوَلْيُ (مص): قرب نزدیکی، بارش کے بعد بارش۔ کہا جاتا ہے: دارہُ وَلْيُ داري: اسکا گھر میرے گھر کے قریب ہے۔ الوَلاءُ: محبت، دوستی، قرب، نزدیکی، رشتہ داری، مدد، ملکیت، آزاد کردہ غلام کے مال کی میراث، یا موالات کے عہد کی بنا پر میراث۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا ولاءً علی [illegible]

رشتہ داری۔ الوَلاية (مص) جمع وَلايات: وہ ملک جو ایک حاکم کے زیر نگین ہو، رشتہ داری۔ کہا جاتا ہے: هم عليّ ولايةٌ واحدةٌ: وہ سب میری مدد میں اکٹھے ہیں (یا اچھے برے کام میں یا میرے خلاف اکٹھے ہوگئے)۔ الوَليّ جمع اَوْلِيَة: بارش کے بعد برسنے والی بارش۔ ــ جمع اَوْلِياء: محبت کرنے والا، دوست، مددگار، پڑوسی، حلیف، تابع، داماد، کسی کے کام کا منتظم۔ کہا جاتا ہے: اللّٰهُ وَلِيُّكَ: اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ونگران ہے۔ المومن وليُّ الله: مومن اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے۔ الولي عند المسلمين: ولی جیسے عیسائیوں کے ہاں سینٹ (saint)۔ وليُّ العهد: تخت کا وارث۔ وليُّ اليتيم: یتیم کا سرپرست۔ وَلِيّة جمع وَلِيّات و وَلايا: ولی کا مونث، قرب، نزدیکی، عرق گیر۔ دارٌ وليّةٌ: قریبی گھر۔ الأَوْلَى تثنيه الاَوْلَيان جمع الأَوْلَوْن والأَوَالِي مونث الوُلْيا تثنيه الوُلْيَيَان جمع الوُلَى و الوُلْيَيات: زیادہ حقدار، زیادہ لائق۔ کہا جاتا ہے: هو اَوْلَى بكذا: وہ اس کا زیادہ حقدار اور لائق ہے۔ اَوْلَى لَكَ: یہ کلمہ دھمکی کیلئے استعمال ہوتا ہے یعنی تباہی تمہارے قریب آ چکی ہے، بچ جاؤ، بعض کے نزدیک اس کا معنی الويلُ لك يا اولاك اللّٰهُ ما تكرهه: (تمہیں مصیبت آئے یا اللہ تمہارے ساتھ وہ کرے جو تمہیں پسند نہ ہو) ہے۔ اس صورت میں لک میں ل زائد ہوگا۔ اَوْلَى لِي اور اَوْلَى لَه بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ المَوْلَى جمع المَوَالِي: مالک، آقا، غلام، غلام آزاد کرنے والا، آزاد کردہ غلام، انعام دینے والا، جس کو انعام دیا گیا ہو، محبت کرنے والا، ساتھی، حلیف، پڑوسی، مہمان، شریک، بیٹا، چچا، چچا کا بیٹا، بھانجا، داماد، رشتہ دار، ولی، تابع۔ المَوْلَى سے فعل بنا کر کہا جاتا ہے: هو يَتَمَوْلَى علينا: وہ آقاؤں کی نقل کرتا ہے۔ المَوْلى مونث مَوْلِيَّة: وہ بچہ جو کسی کی نگرانی میں ہو۔ المَوَاليا: ایک قسم کے اشعار جن کو گایا کرتے تھے اور آخر میں یا موالیا کہا کرتے تھے (اے ہمارے آقاؤ) عوام مَوَّال جمع مَوَاويل کہتے ہیں۔ المَوْلَوِي: مولا کی طرف منسوب، زاہد۔ المَوْلَوِيّة: مولویوں کے پہننے کی ٹوپی۔ کہا جاتا ہے: فيه مَوْلَوِيّة: وہ شرفاء سے مشابہت رکھتا ہے۔ المُتَوَالِي (فا) المُتَاوِلة کا واحد جس کے معنی شیعان علی ہے جنہوں نے حضرت علیؓ اور ان کے اہل بیت کو حاکم مقرر کیا تھا۔ المُتَوالِية الحسابية: حسابی سلسلہ۔ المتوالية الهَندَسية: جومیٹریکل

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

سلسلہ (mathematical & geometrical progression)۔

ت وَلِیَ یَلِی وَلْیًا ویا ہ: کے قریب ہونا۔ ـــ ہ: کے بعد ہونا یا پڑنا، سے ملحق، متصل یا ملا ہوا ہونا۔ ـــ ہ یا ہ: کے پیچھے ہونا یا آنا۔ ـــ ہ: سے متصل ہونا۔ ـــ وِلاءً و وَلایَۃً: کا دوست ہونا، سے دوستی کا حق ادا کرنا، سے دوستی کرنا، کی دستگیری کرنا۔ ـــ وِلایَۃً و وَلایَۃً ہ یا علی: کا نگران ہونا، کا انتظام کرنا، کو چلانا، کا بندوبست کرنا، کا نظم ونسق چلانا، پر حکومت کرنا، حکمرانی کرنا، فرماں روائی کرنا، پر اقتدار رکھنا، قابو رکھنا۔ مَـا یَلِـی: حسب ذیل، ذیل کا۔ کَمَـا یَلِی: حسب ذیل، اس طرح۔ فِیـمـا یلی: انجام کار، حسب ذیل طور پر۔ مایلی البدن من الملابس: انڈرویئر، نیچے پہننے کے کپڑے۔ غرفۃ تلی السقفَ: چھت کے نیچے کا کمرہ۔ وَلِیَ الحکمَ: اقتدار میں آنا، حکومت پر قبضہ کرنا، حکومت سنبھالنا۔ وَلَّـی ہ یـا ہ: کی طرف پیٹھ یا چہرہ کرنا۔ ـــ عَنْ یا ہ: سے بچنا، سے پہلوتہی کرنا، سے پہلو بچانا، سے کنی کترانا، سے احتراز یا گریز کرنا، سے بھاگنا، فرار ہونا۔ ـــ: ادھر ادھر مڑنا، پیچھے مڑنا، گزرنا، آہستہ آہستہ گزرنا (دنوں یا سالوں کا)۔ ـــ ہ: کو بطور منتظم، ناظم، ناظم اعلی گورنر یا حکمران مقرر کرنا۔ ـــ ہ ہ کو کا نگران بنانا، کو کا سربراہ بنانا، کے سپرد کوئی کام یا چیز کرنا، کو کوئی کام سونپنا یا تفویض کرنا۔ وَلّاہ دُبُـرَہٗ یـا ولّاہ ظَهْـرَہٗ: کی طرف پیٹھ موڑنا۔ ولوا عنہ الادبار: انہوں نے اپنی پیٹھیں اس کی طرف موڑیں، انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وَلَّـی ھاربًا: بھاگ جانا، راہِ فرار اختیار کرنا۔ وَلّی وجهَہٗ ہ: کی طرف منہ کرنا۔ وَالَی: دوست، مددگار، حامی، سرپرست یا محافظ یا نگہبان ہونا۔ ـــ ہ: کی مدد کرنا، کو مدد دینا۔ ـــ ہ کو اکثر یا ہمیشہ کرنا، کو لگاتار کرنا، کو بلا رکاوٹ کرنا یا جاری رکھنا، کو لگاتار کرنے لگنا؛ میں لگے رہنا، کو کرتے رہنا، کے حصول کے لئے جدوجہد کرنا، کو ترقی دینا۔ ـــ ہ: (وقت کے) فوراً بعد ہونا۔ ـــ ہ: کے بعد ہونا۔ اَوْلَی ہ ہ: کے قریب کچھ کرنا، کی طرف پیٹھ وغیرہ کرنا، کی تحویل میں کی دیکھ بھال یا ذمہ داری دینا، کے سپرد کچھ کرنا، کو کچھ سونپنا، پر (کوئی) احسان کرنا، کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا جو نقصان دہ ہو، کے لئے کسی ناگوار چیز کا ذمہ دار ہونا، کی جانب لاپروائی وغیرہ کا مظاہرہ کرنا یا اس کا ثبوت دینا۔ اَوْلَاہ ثقتَہٗ: پر اعتماد کرنا۔ اولاہ معروفاً: سے ہمدردی احسان وغیرہ کرنا۔ تَـوَلَّی ہ کسی عہدہ یا منصب پر فائز ہونا، کچھ سپرد کیا جانا، سونپا جانا، کا نگران ہونا، کا قبضہ لینا، کی ذمہ داری لینا، کے فرائض سنبھال لینا، (کوئی معاملہ) ہاتھ میں لینا، پر توجہ کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کا انتظام کرنا، کی ذمہ داری قبول کرنا، کا ذمہ لینا، پر قابو پانا، حکومت سنبھالنا، اقتدار میں آنا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، سے احتراز کرنا، کو چھوڑنا، ترک کرنا، سے دست کش ہونا۔ تَـوَلّی الحکمَ: اقتدار میں آنا، اقتدار پر قبضہ کرنا۔ ـــ تولّاہ الیاس: ناامیدی، مایوسی نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تَـوَالَی: یکے بعد دیگرے یا ایک دوسرے کے بعد ہونا یا آنا، کسی رکاوٹ کے بغیر ہونا یا آنا۔ ـــ علی: کے پاس لگاتار آنا، متواتر یا پے در پے آنا، میں ہمیشہ یا اکثر پہنچنا، آنا۔ ـــ: جاری رہنا، ترقی کرنا، بہتر ہونا (حملہ، پیش قدمی، رفتار وغیرہ کا)۔ اِستـولـی علی: پر قبضہ کرنا، اپنے آپ کو کا مالک یا آقا بنانا، کو ضبط کرنا، بحق سرکار ضبط کرنا، کو سر کرنا، فتح کرنا، قابو کرنا، پر قابض ہونا، پر قابو پانا، کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، کو گھیرے میں لے لینا، کو قیدی بنانا، قید کرنا، گرفتار کرنا۔ وَلِی: قریب، نزدیک، پڑوس، متصل، ملحق، ملا ہوا جمع اولیـاء: مددگار، حامی، محسن، ذمہ دار، ضامن، کفیل، دوست، قریبی ساجھی، شریک، ہم صحبت رشتہ دار، سرپرست، محافظ، قانونی سرپرست، مہتمم، نگران استاد، ولی، ولی اللہ، آقا، مالک، قابض۔ وَلِـیُّ الأمر: ذمہ دار منتظم، نگران، حاکم، اتالیق، قانونی سرپرست۔ ولـیُّ الـدم: قتل یا خون کا بدلہ یا انتقام لینے والا، قتل کے جھگڑے پر تعمیل حکم کرنے والا۔ ولیُّ السَّجَّادہ: سجادہ نشین۔ ولـیُّ العہد تخت کا وارث، جانشین، قائم مقام، ولی عہد (شہزادہ)۔ ولیُّ النِعمۃ: محسن۔ وَلِیَّۃ: عورت ولی، عورت، خاتون۔ وَلاء: دوستی، میل جول، ارتباط، فیض رسائی، خیر اندیشی، خیر خواہی، خیر سگالی، وفاداری، فرمانبرداری، اطاعت، انقیاد، جاں نثاری۔ معـاهـدۃُ وَلاءٍ: دوستی کا معاہدہ۔ وَلائِی: دوستانہ، پرامن، دوستی کا۔ وِلایۃ: خودمختار یا آزاد طاقت حاکمیت، اقتدار اعلی، حکم، حکومت جمع وِلایات: انتظامی ضلع جس کا سربراہ والی کہلاتا تھا، صوبہ، ریاست۔ الـولایات المتحدۃ: ریاست ہائے متحدہ۔ ولایۃ العہد: تخت کی وراثت۔ وَلایۃ سرپرستی، نگرانی، قانونی، اختیار، دوستی۔ ھـم عـلـی ولایۃٍ واحدۃ: وہ آپس میں متحد رہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اَوْلَـی ب: کا زیادہ حق دار۔ اَوْلَـی: زیادہ مستحق، زیادہ مناسب۔ ـــ ب: کے لئے زیادہ موزوں، کیلئے زیادہ مناسب، زیادہ کافی۔ بِـالأَوْلَی یـا مِن بـاب اَوْلَـی: زیادہ بڑے سبب سے، زیادہ جائز طور پر۔ ھی اولی بہ منہ: اس مرد کی نسبت یہ بات اس عورت کے لئے زیادہ قدرتی ہے، وہ عورت اس مرد سے زیادہ اس کی مستحق ہے۔ اَوْلَـوِیَّۃ: اولیت، پیش روی، برتری۔ مَـوْلَـی جمع مَوَالٍ: آقا، مالک، محافظ، سرپرست، موکل، گاہک، دوست، ساتھی، ہم صحبت۔ المَـوْلَـی: اللہ تعالٰی۔ مُوْلایَ و مَوْلانا: فرمانروا کو مخاطب کرنے کی شکل۔ مَوْلاۃ: مالکن، بی بی، بی بی جی، بیگم صاحبہ، خاتون۔ مَوْلَوِی جمع مَوْلَوِیۃ: مولانا جلال الدین رومی کے سلسلہ کا ایک درویش۔ تَـولِیۃ: بطور والی تقرر، بطور جانشین تقرر، قیمت خرید پر دوبارہ فروخت۔ وِلاء: تسلسل، تواتر، سلسلہ، جانشینی، اجراء، استمرار۔ وِلاءً یـا عـلی ولاءٍ: بلا روک، پے در پے، یکے بعد دیگرے۔ مُوَالاۃ: دوستی، استحکام، تسلسل، استمرار، دوام، ہمیشگی۔ اِیْلاء: شوہر کی طرف سے قسم کھا کر گواہی کے بعد کہ وہ کم از کم چار ماہ سے بیوی کے قریب نہیں گیا، شادی کی تنسیخ۔ تَوَلٍّ: عہدہ سنبھالنا۔ تَوَالٍ: مسلسل کسی کے بعد آنا یا ہونا، بے روک ترتیب یا سلسلہ، جاری رہنا۔ علـی التـوالی: بے روک، لگاتار، مسلسل، یکے بعد دیگرے، پے در پے، ایک ایک کرکے۔ علی توالی الایام: وقت کے دوران میں۔ بِتـوالِی السنین: جیسے جیسے سال گزرتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، کبھی نہ کبھی، دیر سویر، جلد یا بدیر۔ والٍ جمع وُلاۃ: سرکردہ، انتظامی، عاملہ، انتظامیہ، حاکم، گورنر، حاکم، والی، افسر اعلی۔ وُلاۃ الامور: سرکردہ شخصیات لیڈران۔ مُوالٍ: دوست مددگار، حامی، گاہک، موکل، جاگیر کا مزارع، منصبدار، ماتحت، پکا حامی، پیرو، حمایتی، وابستہ، وابستہ دامن، طرف دار، ہوا خواہ۔ مـوالیۃ: وابستگی، پیروی، طرف داری، ہوا خواہی، گاہک، موکل، حامی، پیرو، مرید۔ مُتَـوَلّی: سپرد کیا ہوا، سونپا ہوا۔ مُتَوَلّی الاعمال: مدار المہام، ناظم الامور (charge d'affaires)۔ مُتَوَالٍ: لگاتار، مسلسل، پے در پے، متواتر، بے روک، غیر منقطع جمع مُتاوِلۃ: ملک شام میں متوالیوں کے شیعی فرقہ کا رکن۔

وما: ا۔ وَمَـأَ یَمَـأُ وَمْأً وَمَّأً تَومِئۃً و اَیمَأَ اِیماءً بحاجبہ او بیدہ او غیر ذلک: ابرو، ہاتھ وغیرہ سے اشارہ کرنا۔ وَامَـأَ مُوَامَأَۃَ الرجلَ: سے اتفاق کرنا، موافقت کرنا۔ الـمُومَا إلیہ: جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کا ذکر کیا گیا۔ مذکورہ بالا۔

۲۔ الوامِنۃ مصیبت:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ٲ اَوْمَأ: اشارہ سے کہنا، سگنل کرنا، اشارات سے اطلاع دینا، انگلی سے اشارہ کرنا، علامت بتانا۔ ـــ اِلی: کو واضح کرنا، کی طرف اشارہ کرنا، بتانا، دلالت کرنا، ظاہر کرنا، کے آثار ہونا۔ اِیماء: جھوٹ موٹ کی حرکت یا اشارہ، اشارے، حرکتیں، اشاروں میں باتیں۔ فن الایماء: خاموش تمثیل۔ ایماءً اِلی: کے متعلق، بہ لحاظ، بحوالہ۔ اِیماءۃ جمع اِیماءات: حرکت، اشارہ، سر کا اشارہ، سر کی حرکت، ابرو کا اشارہ۔ المُومَا الیہ: مذکورہ بالا، جس کا ذکر کیا گیا۔

ومح: الوَمْحَۃ: دھوپ کا اثر۔

ومد: ۱۔ وَمِدَ یَوْمَدُ وَمَدًا ت اللیلۃُ: رات کا سخت گرم اور گھٹن والی ہونا۔ صفت: وَمِد و وَمِدَۃ۔ الوَمَدَۃ: رات کی سخت گرمی۔

۲۔ وَمِدَ یَوْمَدُ وَمَدًا علیہ: پر غضبناک ہونا۔ کہا جاتا ہے: ھو وَمِدٌ علیہ وہ اس پر غضبناک ہے۔ ٲ وَمِد: حبس والا۔ اُمس والا، ہمس والا، برسات کا ہمس والا (دن، موسم)۔

ومز: وَمَزَ یَمِزُ وَمْزًا بأنفہ: ناک کو غصہ سے ہلانا۔ تَوَمَّزَ: اٹھنے کیلئے تیار ہونا۔

ومس: وَمَسَ یَمِسُ وَمْسًا الشیءَ بالشیءِ: چیز کو چیز سے رگڑنا، یہاں تک کہ چھلکا جدا ہو جائے۔ اَوْمَسَت المرأۃُ: عورت کا بدکار ہونا۔ ـــ العنبُ: انگور کا پکنے کیلئے نرم ہونا۔ الوَمْسَۃ: سفید تل۔ المُومِس و المُومِسَۃ جمع مُومِسات و مَوامِس و مَوامِیس و مَیامِس و مَیامِیس: بدکار اور فاجرہ عورت۔

ٲ وَمَسَ یَمِیسُ وَمْسًا: رگڑ کر دور کرنا۔ ـ ہ ب: کو سے ہموار کرنا، کو سے رگڑ کر صاف کرنا، چمکانا۔ مُومِس و مُومِسَۃ جمع مُومِسات: طوائف، بیسوا، رنڈی، کسبی۔

ومض: وَمَضَ یَمِضُ وَمْضًا و وَمِیضًا و وَمَضانًا البرقُ: بجلی کا ہلکے سے چمکنا۔ صفت: وَامِض۔ اَوْمَضَ اِیماضًا البرقُ: بجلی کا ہلکے سے چمکنا۔ ـــ الرجلُ: رمز سے اشارہ کرنا، بجلی یا آگ کی چمک دیکھنا، مسکرانا۔ ـــ ت المرأۃُ بعینھا: عورت کا دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنا۔

ٲ وَمَضَ یَوْمِضُ وَمْضًا و وَمِیضًا و وَمَضانًا: چمکنا، کوندنا۔ اَوْمَضَ ہ: کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنا، کو آنکھ سے اشارہ کرنا، کو آنکھ مارنا۔ وَمْضَۃ جمع وَمَضات: ایک نگاہ، ایک نظر، پلک جھپکنا، جھلملانا، روشنی کی کرن، روشنی کا عکس یا انعکاس۔ وَمِیض: جھلملاہٹ، جگمگاہٹ، چمکنا، دمکنا، ٹمٹمانا، جھپک، دمک۔

ومع: الوَمْعَۃ: بارش کی بوچھاڑ۔

ومغ: الوَمْغَۃ: لمبا بال۔

ومق: وَمِقَ یَمِقُ مِقَۃً و وَمْقًا ہُ: سے محبت کرنا۔ وَامَقَ وِماقًا و مُوامَقَۃً ہُ: ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ تَوَمَّقَ ہُ: سے دوستی کرنا۔ تَوامَقَ الرجلان: دو آدمیوں کا آپس میں محبت کرنا۔ الوَمِیق و المَوْمُوق: محبوب، پیارا۔

ومن: تَوَمَّنَ الرجلُ: بہت اولاد والا ہونا۔

ومہ: وَمِہَ یَوْمَہُ وَمَھًا النھارُ: دن کا بہت گرم ہونا۔

ومی: وَمَّی تَوْمِیَۃً بالشیءِ: کو لے جانا۔ اِسْتَوْمَی علیہ: پر غالب آنا۔ المَوْمَاۃ و المَوْماء جمع المَوامِی: بیابان۔

ون: اَلوَنّ: کمزوری، انگلیوں سے بجانے کا چنگ (عام لوگ کہتے ہیں: وَنّ الذباب: مکھی کا لگاتار تیز بھنبھنانا۔

ٲ وَنَّ -: (شہد کی مکھی کا) بھنبھنانا۔

ونب: وَنَّبَ ہُ: کو جھڑکنا، ڈانٹنا۔

ونج: الوَنَج (مو): ایک قسم کا بربط (فارسی لفظ)۔

ونح: وانح مُوانَحَۃً ہُ: سے موافقت کرنا۔

ٲ الوندل: تہذیب سوز، غارتگران جنس تہذیب (the Vandals)۔

ٲ وَنْش جمع وُنُشات و اُوناش: چرخی رولر کا ستھا، دھرے کی چکر کیل، بوجھ اٹھانے کی کلی کرین۔ وَنْش دوّار: بھاری بوجھ اٹھانے کی کرین۔ وَنْش عائم: تیرنے والی کرین، تیرتی ہوئی کرین۔ وَنْش بالید: ہاتھ کی چرخی۔

ونل: الوَنِیلَۃ (ن): ایک پودا جو وسطی امریکی الاصل ہے۔ قدیم و جدید دونوں براعظموں کے گرم ممالک میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کا پھل لذیذ ہوتا ہے اس سے چاکلیٹ جیسی مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں۔

ونم: وَنَمَ یَنِمُ وَنْمًا و وَنِیمًا الذبابُ: مکھی کا بیٹ کرنا۔ الوَنَمَۃ و الوَنِیم: مکھی کی بیٹ۔

ونی: ۱۔ وَنَی یَنِی و وَنِیَ یَوْنَی وَنْیًا و وَنِیًّا و وَناءً و وِنْیَۃً و نِیَۃً و وَنَـی: ست ہونا، کمزور ہونا، تھکنا، صفت: وانٍ م وانیۃ۔ ـــ ہُ: کو چھوڑ دینا۔ ـــ عن کذا: کو چھوڑ دینا، نظر انداز کرنا۔ ـــ ت السحابۃُ: بادل کا برسنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لاینی یفعل کذا: فلاں شخص ابھی تک ایسا کرتا ہے۔ وَنَّی تَوْنِیَۃً: کام میں ست ہونا۔ اَوْنَی اِیناءً الرجلَ: کو تھکا دینا، کمزور کرنا۔ [illegible] حاجت میں سستی کرنا، کوتاہی کرنا، لاپرواہی برتنا، دلچسپی نہ لینا۔ الوانی (فا): کمزور بدن والا۔ نسیم وانٍ: نرم نرم چلنے والی باد نسیم۔ الوَناء: سستی۔ امرأۃٌ وَناۃٌ و أناۃٌ و وانیۃٌ: ست حرکات والی عورت۔ الوُنُوَّۃ: عقل کی کمزوری۔ المِیناو المِیناء جمع مَوانٍ و مَوانِیّ: بندرگاہ۔ مِیناءُ الساعۃ: گھڑی کا ڈائل۔

۲۔ وَنَی یَنِی و وَنِیَ یَوْنَی وَنْیًا و وَنِیًّا و وِناءً و وِنْیَۃً و نِیَۃً و وَنَی الکرمُ: آستین چڑھانا۔

۳۔ الوَناۃ و الوَنِیَّۃ: موتی۔ الوَنِیّ: موتی (جمع)۔

ٲ وَنَی یَنِی و وَنِیَ یَوْنَی وَنْیًا وَناءً و وَنْیًا و وِناءً: بے ہوش ہونا، غش کھانا، کمزور ہونا، یا ہو جانا، تھکنا یا تھک جانا، مایوس ہونا، دل شکستہ ہونا، یاس زدہ ہو جانا، سوکھا ہوا ہونا، ازکار رفتہ ہونا، ناتواں ہونا، مضمحل ہونا، نڈھال ہونا، صحت و طاقت زائل ہو جانا، مردہ دل ہو جانا۔ لاینی: (کچھ کرنے میں) نہ تھکنا۔ بھِمّۃٍ لاتنی: ان تھک جوش و سرگرمی سے۔ وَنَی فی: میں ست، ڈھیلا ڈھالا، لاپروا، غافل یا فرض ناشناس ہونا۔ توانَی: نڈھال ہونا، مردہ دل ہو جانا، صحت و طاقت زائل ہو جانا، ستانا، ڈھیلا ہونا، ست ہو جانا، ست ہونا، کاہل الوجود ہونا یا ہو جانا، لنگڑا ہونا یا ہو جانا، پچپچا، ڈھیلا ڈھالا یا نرم ہونا یا ہو جانا۔ ـــ فی: میں ہچکچانا، پس و پیش کرنا، دفع الوقت کرنا، منتظر رہنا۔ وَنْـی: ست ہو جانا، ڈھیلا کرنا یا ہونا، سستی کاہلی، ڈھیلا پن، کمزوری، ناتوانی، سخت تھکن، غنودگی، تھکن، تھکاوٹ، ماندگی، الکسی، بے کیفی۔ وَناء: ست ہونا، ڈھیلا ہونا، سستی کاہلی، ڈھیلا پن، کمزوری، ناتوانی، سخت تھکن، غنودگی، تھکن، تھکاوٹ، ماندگی، الکسی، بے کیفی۔ توانٍ: تھکنا، نڈھال ہونا، آہستگی، نرمی، ڈھیلا پن، لنگڑاہٹ، بے پروائی، غفلت، بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی۔ وانٍ: کمزور، لاغر، ناتوان، تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ غیر وانٍ: نہ تھکنے والا، کم نہ ہونے والا، مسلسل، ان تھک۔ مُتَوانٍ: کمزور، نڈھال، پژمردہ، ست رفتار، مردہ دل، ست، کاہل الوجود، ڈھیلا ڈھالا، لنگڑا، پچپچا، ڈھیلا ڈھالا، نرم، بے پروا، غافل، فرض ناشناس، آہستہ، ست، دیر کرنے والا۔

وۃ: وَھْوَہَ وَھْوَھَۃً فی صوتہ: غم یا گھبراہٹ کی وجہ سے بڑبڑانا۔ ـــ الأسدُ فی زئیرہ: شیر کا دھاڑنا۔ صفت: وَھْواہٌ۔ الوَھْوَہُ من الخیل: چست و تیز گھوڑا۔ الوَھْواہُ من الخیل: چست و تیز گھوڑا۔ رجلٌ وَھْواہٌ: بزدل آدمی۔

وہب: ۱۔ وَھَبَ یَھَبُ وَھْبًا و وَھَبًا و ھِبَۃً المالَ فلانًا

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

و لفلان: کو مال بخشا، ہبہ کرنا۔(هَبْنِي فعلت كذا: فرض کرو میں نے ایسا کیا۔ هَبْ اِنِّي فعلت كذا نہیں کہا جاتا۔ اس معنی میں یہ صرف امر کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے۔)۔۔۔ و وَهِبَ يَهَبُ وَهْباً و وَهَباً و هِبَةً الرجلَ: سے فیاضی میں بڑھنا۔ وَاهَبَ مُوَاهَبَةً: سے فیاضی میں مقابلہ کرنا۔ اَوْهَبَ اِيْهَاباً الامرَ لفلان: کام کو کیلئے تیار کرنا۔۔۔ الشیءُ لفلان: چیز کو حاصل کرنا کسی کیلئے ممکن ہونا۔ ۔۔۔ الشیءُ لَهٗ: کیلئے زیادہ و بکثرت ہونا کہ وہ اسے عطا کر سکے۔ کہا جاتا ہے: او هبتُ لكذا: میں نے اس پر قدرت پائی۔ تَوَاهَبَ القومُ: ایک دوسرے کو ہبہ کرنا۔ اِتَّهَبَ اِتِّهاباً الهبةَ: ہبہ قبول کرنا۔ اِسْتَوْهَبَ اِسْتِيهَاباً الهبةَ: ہبہ طلب کرنا۔۔۔ فلاناً و من فلان الهبةَ: سے ہبہ مانگنا۔ الهِبة: بخشش، عطیہ۔ جمع هِبات۔ الوَهَّاب و الوَهَّابة الوَهُوب: بہت ہبہ کرنے والا۔ المَوهِب: عطیہ دینا، عطیہ۔ المَوهِبَة: عطیہ دینا، عطیہ، انعام، بخششیں، عطیہ۔ والمَوْهَبَة و المَوهِبَة جمع مَوَاهِب: عطیہ، عطا کردہ چیز۔

٢۔ المَوهِبة و المَوْهَبَة جمع مَوَاهِب: پانی کا چھوٹا تالاب۔

⊙ وَهَبَ يَهَبُ وَهْباً و هِبَةً ه ل: کو کوئی چیز دینا، عطا کرنا، بخشا، پیش کرنا۔ وهَبْتُهُ من ذات نفسها: اس نے آپ کو اسے کھل کر دے دیا۔ هَبْ: فرض کرو کہ۔ هَبْنِي فعلت: فرض کرو میں نے کیا۔ هَبْنِي هُبْنِي(?) فرض کرو میں۔۔۔۔ یا میں۔۔۔۔۔ وَلْنَهَبْ ان: آؤ فرض کریں کہ۔۔۔ هِبَة جمع هِبات: تحفہ، عطیہ، گرانٹ۔ عَقْدُ الهِبَة: ہبہ نامہ۔ وَهْبَة: بخششیں، انعام، عطیہ۔ وَهَّابِي: وہابی۔ الوهابية: وہابیت۔ مَوْهِبَة جمع مَوَاهِب: تحفہ، طباعی، جوہر، صلاحیت، ذہانت، ایہاب: عطیہ، عطا (کرنا)۔ وَاهِب: دینے والا، عطا کرنے والا۔ مَوْهُوب: دیا ہوا، عطا شدہ، تحفہ میں دیا ہوا، ذہین جوہر قابل، طباع۔ مَوْهُوب لَهٗ: تحفہ یا گرانٹ (امداد) وصول کرنے والا، مراد یا عطیہ پانے والا، وہ جسے عطیہ ملے۔

وهت: ١۔ وَهَتَ يَهِتُ وَهْتاً الشیءَ: کو دبانا، سختی سے روندنا۔ الوَهْتَة جمع وَهْت: پست زمین۔

٢۔ وَهِتَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ لحمٌ مُوهِت: بدبودار گوشت۔

وهث: وَهَثَ يَهِثُ وَهْثاً و هِثَةً فی الشیءِ: میں مشغول ہونا۔ الشیءَ: کو سختی سے روندنا۔ تَوَهَّثَ تَوَهُّثاً فی الامر: پر خوب غور کرنا۔

وهج: وَهَجَ يَهِجُ وَهْجاً و وَهِيجاً و وَهَجَاناً تِ النارُ او الشمسُ: آگ یا سورج کا روشن ہونا۔ اَوْهَجَ النارَ: آگ بھڑکانا۔ تَوَهَّجَ: بھڑکنا۔۔۔ الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا۔۔۔ یومُنا: دن کا سخت گرم ہونا۔۔۔ الجوهرُ: ہیرے کا چمکنا۔۔۔ ت رائحةُ الطیبِ: خوشبو پھیلنا۔ الوَهَج: آگ کی بھڑک، سورج کی چمک، آگ یا سورج کی دور سے تپش۔ وَهْجُ الطیب: خوشبو کی مہک۔ یومٌ وَهِيجٌ: سخت گرم دن۔ الوَهَّاج: تیز بھڑکنے والا۔ نجم وَهَّاجٌ: روشن ستارہ اسی طرح سراج وھاج: روشن لیمپ۔ یومٌ وَهْجانٌ: سخت گرم دن۔ الوَهِيج (مص): جلنا، گرمی۔ وَهِيجُ الطیب: خوشبو کی مہک۔

⊙ وَهَجَ يَهِجُ وَهْجاً و وَهَجاناً: دمکنا، تمتمانا، جلنا، چمکنا، بھڑک اٹھنا، شعلے نکلنا، تاباں ہونا، تابندہ ہونا، کرن یا شعاع نکلنا، روشن ہونا، جگمگانا، درخشاں ہونا، بھڑکنا، رہ رہ کر چمکنا، جھلکنا، جھلملانا۔ اَوْهَجَ ه: آگ روشن کرنا، جلانا۔ تَوَهَّجَ: جلنا، دہکنا، دمکنا، لہکنا، لال ہونا، شعلہ زن ہونا، روشن ہونا، چمکنا، مشتعل ہونا، بھڑک اٹھنا، جلتا ہوا ہونا، چمکتا ہوا ہونا، دمکتا ہوا ہونا، شعاع نکلنا، جگمگانا، تاباں ہونا، درخشاں ہونا، بھڑکنا، رہ رہ کر چمکنا، جھلکنا، جھلملانا۔ وَهَج: آگ، شعلہ، لپٹ، سخت تپش، روشنی، تابانی، سورج کی چندھیا دینے والی یا خیرہ کن روشنی۔ وَهَّاج: سخت گرم، دہکنے والا، تمتمانے والا، لال ہونے والا، جلتا ہوا، چمکتا ہوا، دہکتا ہوا، زیادہ گرم ہونے والا، بھڑکتا ہوا، شعلہ زن، روشن، نور افشاں، چمکیلا، دفعۃً شعلہ بنکر بھڑک اٹھنے والا، روشن، تابان، چمک دار، تیز طبع، ذہین، شعاع افشاں، تابندہ، فروزاں۔ نورٌ وَهَّاج: خیرہ کن روشنی۔ ذهبٌ وَهَّاج: چمکتا ہوا سونا۔ وَهِيج: آگ، تیز شعلہ، بھڑک، آب وتاب، سخت گرمی، روشنی تابانی، سورج کی چندھیا دینے والی یا خیرہ کن روشنی۔ وَهَجان: آگ، تیز شعلہ، بھڑک، آب وتاب، (دمک) سرخی، تمتماہٹ، جوش، حرارت

وهد: وَهَّدَ لَهُ الفراشَ: کے لئے فرش بچھانا۔ تَوَهَّدَ الفراشُ: فرش بچھنا۔ الوَهْد جمع اَوْهُد و وُهْدان: پست زمین۔ مکانٌ وَهْدٌ: پست جگہ۔ الوَهْدَة جمع وِهاد و وَهْد: پست زمین، گڑھا۔

⊙ وَهَّدَ ه ل: کو کے لئے ہموار کرنا، برابر کرنا، تیار کرنا۔ وَهْد: نشیبی زمین، نشیبی میدان، نشیب، گڑھا۔ وَهْدَة جمع وِهاد و وُهْد: نشیب، گڑھا، نشیبی زمین، اتھاہ گہرائی، قعر، تحت الثری یا تال، کھڑی چٹان، زمین میں گہرا خوفناک شگاف، گہرا گڑھا، تنگ گھاٹی، گہری گھاٹی، گراوٹ، پستی، اخلاقی پستی۔ اَوْهَد: نیچا، پست، نشیبی، نشیب میں واقع، نیچے کو دبایا ہوا۔

وهر: وَهَرَ يَهِرُ وَهْراً و وَهَرَةً: کو نا قابل خلاصی مشکل میں ڈالنا۔ تَوَهَّرَ اللیلُ او الشتاءُ: رات یا سردی کے اکثر حصہ کا گزر جانا۔۔۔ ہ فی الکلام: گفتگو میں کسی کو حیران کر دینا، ہٹپٹا دینا۔ لَهَبٌ واهِر: چمکدار شعلہ۔ الوَهَر: دھوپ میں رقص کناں گرمی کی لہریں۔ الوَهْرة: نا قابل خلاصی مشکل میں پھنسنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: فلانٌ ذو وَهْرَةٍ: فلاں ہیبت اور وقار والا ہے۔ الوَهْران: خائف، ڈرنے والا۔

٢۔ اِسْتَوْهَرَ و اِسْتَيْهَرَ اِسْتِيهاراً به: پر یقین کرنا۔

⊙ وَهَرَ يَهِرُ وَهْراً ہ: کو مشکلات میں پھنسانا، کو ڈرا دینا، خائف کرنا۔ وَهَّرَہ: بمعنی وَهَرَہ: نیز وَهَّرَہٗ: کو پریشان کر دینا، تکلیف دینا، کو بوکھلا دینا۔ وَهْرَة: خوف، ڈر، دہشت، ہیبت، سخت خوف، ہول، اندیشہ، کھٹکا، سراسیمگی، یاس، مایوسی، حزن۔ وَهْران: شمالی مغربی الجزائر کی بندرگاہ: اوران (ORAN seaport in NW Algeria)۔

وهز: وَهَزَ يَهِزُ وَهْزاً ہٗ: کو روندنا، کو ہاتھ سے ہٹانا یا مارنا۔۔۔ ہ علی کذا: کو کسی ترغیب دینا۔۔۔ الشیءَ: کو توڑنا، کوٹنا۔۔۔ القملةَ بین اصابعه: جوں مارنا۔ وَهَّزَهٗ: کو بوجھل کرنا۔ تَوَهَّزَ: زور سے روندا جانا، ست چال چلنا، بوجھل قدموں سے چلنا۔ ۔۔۔ خلفَ فلان: پر پیچھے سے کودنا۔ کہا جاتا ہے: مَرَّ يَتَوَهَّزُ: وہ زمین کو سخت دباتے ہوئے گزرا۔ الوَهْز (مص): پستہ قد، مضبوط آدمی۔ الوَهَازَة: باحیا عورت کی چال۔ الاَوْهَز: اچھی چال والا۔ المُوَهَّز و المُوْهَز: بہت دبا کر چلنے والا۔ سخت روندنے والا۔

وهس: ١۔ وَهَسَ يَهِسُ وَهْساً الشیءَ: کو توڑنا، کوٹنا، سخت روندنا۔۔۔ الرجلُ: تیز چلنا۔۔۔ علی قومه: اپنی قوم پر ظلم کرنا۔ وَاهَسَ مُوَاهَسَةً: تیز چلنا۔ تَوَهَّسَتِ الإبلُ: اونٹوں کا اچھی چال چلنا۔ کہا جاتا ہے: تَوَهَّسَ الارضَ فی مشیته: اس نے اپنی چال میں زمین کو بہت دبایا۔۔۔ و تَوَاهَسَ: ست چال چلنا، تیز چلنا۔ الوَهْسَة: شارع عام۔ الوَهَّاس: مبالغہ کا صیغہ: (ح) شیر۔

٢۔ وَهَسَ يَهِسُ وَهْساً فی الامر: میں حیلہ کرنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وَاهَسَ مُوَاهَسَةً هُ: سے جھگڑنا۔ الوَهُس (مص): برائی، چغلی۔

وهص: وَهَصَ يَهِصُ وَهْصاً الشيءَ الرخوَ: نرم چیز کو توڑنا، کوٹنا، سخت روندنا، زور سے پھینکنا، زمین پر پٹکنا۔ الرأسَ: سر پھوڑنا۔ الحیوانَ: جانور کو خصی کرنا۔ الوَهْصَة: وهص کا اسم مرة، پست زمین۔ الوَهّاص: بہت فیاض۔ المَوْهِص جمع مَوَاهِص: پست زمین۔ المَوْهُوص و المُوَهَّصُ الخَلْق: مضبوط گٹھیلا آدمی۔

وهص: الوَهْصَة: پست زمین۔

وهط: وَهَطَ يَهِطُ وَهْطاً هُ: کو توڑنا، روندنا، نیزہ مارنا، مارنا۔ — الرجُلُ: کمزور وسست ہونا۔ اَوْهَطَ هُ: کو کمزور کرنا، سست کرنا، کو خوب مارنا پیٹنا، کی خوب مرمت کرنا کو، پچھاڑنا، کو مصیبت میں ڈالنا۔ — جناحَ الطائرِ: پرندہ کا بازو توڑنا۔ تَوَهَّطَ: ٹوٹنا، روندا جانا، نیزہ مارا جانا، مار کھانا۔ — الفراشَ: فرش بچھانا۔ — فی الطین: نرم مٹی میں غائب ہونا۔ الوَهْط (مص) جمع اَوْهَاط: لاغری، جماعت۔ کہا جاتا ہے: بینهم اَوْهَاطٌ: ان کے درمیان جھگڑے اور شوروشغل ہیں۔ الوَهْطَة جمع وَهْط و وِهَاط: پست زمین۔

وهف: ١۔ وَهَفَ يَهِفُ وَهْفاً و وَهِيفاً اِلی کذا: کے قریب ہونا۔ لَہٗ شیءٌ من الدنیا: دنیا کی کوئی چیز کسی کے سامنے آنا، ظاہر ہونا۔ وَهْفاً و وِهَافَةً النصرانیُّ: گرجا کی خدمت بجالانا۔ اَوْهَفَ اِیْهَافاً الشیءَ اِلی کذا: کے قریب ہونا۔ — لَہٗ الشیءُ: کے سامنے آنا، ظاہر ہونا۔ الوَاهِف (فا): گرجے کا محافظ، منتظم یا خادم۔ الوِهَافَة و الوُهْفِيَة: گرجے کا نظام۔

٢۔ وَهَفَ يَهِفُ وَهْفاً وَهِيفاً النباتُ: نباتات کا سبز اور پتے والی ہونا۔

وهق: ١۔ وَهَقَ يَهِقُ وَهْقاً الدابّةَ: جانور کی گردن میں رسی ڈالنا۔ — هُ عن کذا: کو سے روکنا۔ کہا جاتا ہے: لَقلبُكَ عندك مَوْهُوقٌ: دل تمہارے پاس اٹکا ہوا ہے۔ اَوْهَقَ الدابّةَ: جانور کی گردن میں رسی ڈالنا۔ تَوَهَّقَ فلاناً فی الکلام: گفتگو میں کسی کو حیران کرنا۔ الوَهْق و الوَهَق جمع اَوْهَاق: جانور کی گردن میں ڈال کر پکڑی جانے والی رسی۔

٢۔ وَاهَقَ مُوَاهَقَةً البعیرُ البعیرَ: اونٹوں کا چلنے میں گردن لمبی کر کے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ — مُوَاهَقَ القومُ فی الامر: لوگوں کا مساوی طور پر ایک ہی کام کرنا یا اس میں مقابلہ کرنا۔ — تَ الإبل: چلنے میں اونٹوں کا گردن لمبی کر کے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ — الساقیان: دو ساقیوں کا آپس میں مقابلہ کرنا۔

٣۔ تَوَهَّقَ الحصی: کنکریوں کا دھوپ سے گرم ہونا۔

٭ الوَهْق و الوَهَق جمع اَوْهَاق: مویشی پکڑنے کی کمند۔

وهل: وَهَلَ يَهِلُ وَ يَوْهَلُ وَهْلاً اِلی الشیء: کسی کا ایسی چیز کی طرف وہم جانا جس کا ارادہ نہ ہو۔ وَهِلَ يَوْهَلُ وَهَلاً فی الأمر وعنه: کسی کام میں غلطی کرنا، کو بھولنا۔ تَوَهَّلَ هُ: کو غلطی میں ڈالنا۔

٢۔ وَهِلَ يَوْهَلُ وَهَلاً: کمزور ہونا، گھبرانا۔ صفت: وَهِلٌ۔ — الیه: کے پاس پناہ لینا، کے پاس بھاگ کر چلے جانا۔ وَهَّلَ هُ: کو خوفزدہ کرنا، کو گھبرا دینا۔ اِسْتَوْهَلَ: کمزور ہونا، گھبرانا۔ الوَهَل و الوَهْلَة: گھبراہٹ، خوف۔ کہا جاتا ہے: لَقِيتُهٗ اوّلَ وَهْلَةٍ او وَهَلَةٍ او وَاهِلَةٍ: میں نے اس سے سب سے پہلے ملاقات کی۔

٭ وَهِلَ يَوْهَلُ وَهَلاً: ڈرنا، خوفزدہ ہونا، دہشت زدہ ہونا، چھکے چھٹرنا، گھبرانا۔ وَهَّلَ هٗ: کو ڈرانا، خائف کرنا، دھمکانا، پر رعب ڈالنا، کو مرعوب کرنا، کے دل میں دہشت ڈالنا۔ وَهَل: ڈر، دہشت، خوف، کھٹکا، اندیشہ، ہول، سراسیمگی، یاس، مایوسی، حزن۔ وَهْلَة: خوف، دہشت، لحظ، لحہ، آن، گھڑی۔ لأوّلِ وَهْلَةٍ: پہلی نظر پر، فوراً۔ فی الوَهْلَةِ الأولَی: پہلے، شروع شروع میں۔

وهم: ١۔ وَهَمَ يَهِمُ وَهْماً فی الشیء: کو غلط سمجھنا، کے بارے میں غلط خیال ہونا، کا غلط تصور رکھنا۔ — الشیءَ: کا تصور کرنا، کی تصویر ذہن میں قائم کرنا، کا خیال کرنا، کو سمجھنا، کا تخیل کرنا۔ وَهِمَ يَوْهَمُ وَهَماً فی الحساب: حساب میں غلطی کرنا۔ وَهَّمَ هُ: کو وہم میں ڈالنا۔ اَوْهَمَ اِیْهَاماً: وہم میں پڑنا۔ — هُ: کو وہم میں ڈالنا۔ — فلاناً بکذا: پر کی تہمت لگانا، بدگمانی کرنا۔ کذا من الحساب: حساب سے کچھ نکال دینا۔ — الشیءَ: کل چیز چھوڑ دینا۔ اَتْهَمَ هُ بکذا: پر کی تہمت لگانا، بدگمانی کرنا (صحیح اِتَّهَمَهٗ ہے)۔ تَوَهَّمَ الأمر: پر شبہ ہونا، کو مشکوک سمجھنا، کے وجود کا تصور کرنا۔ — فیه الخیرَ: کے اندر خیر معلوم کرنا۔ اِتَّهَمَ هُ بکذا: پر کی تہمت لگانا۔ — هُ فی قوله: کے بیان کی صداقت پر شک کرنا۔ — الرجُلُ: متہم ہونا، پر تہمت لگنا۔ الوَاهِمَة: قوت وہمیہ۔ الوَهْم: قوت وہمیہ، جس سے محسوسات کے جزوی معانی دریافت ہوتے ہیں۔ جیسے زید کی سخاوت یا شجاعت، یہ قوت بکری میں بھی ادراک کی جاتی ہے جیسے بھیڑیے سے بھاگنا ہے اور مادہ میں بھی جیسے بچے سے ہمدردی کرنی ہے۔ احتساب، خوف (کہا جاتا ہے: ولا وَهْمَ من کذا: یہ ضروری ہے)۔ الوَهْمی: وہم سے منسوب، وہمی۔ التُّهْمَة و التُّهَمَة جمع تُهَم و تُهَمات: تہمت، الزام، شک۔ التَّهِیم: مشکوک۔ المَوْهُوم من الأشیاء: وہ چیز جس کی طرف وہم جائے۔

٢۔ اَتْهَمَ: تهامه: میں داخل ہونا۔ تِهَامَة: شمال میں جزیرہ نما سیناء سے جنوب میں یمن کے اطراف تک پھیلا ہوا تنگ ساحلی علاقہ جس میں نجران، مکہ، جدہ اور صنعاء واقع ہیں)۔

٣۔ الوَهْم جمع اَوْهَام و وُهُم و وُهُوم: کشادہ راستہ، بڑا آدمی، مضبوط، موٹا اور سدھایا ہوا اونٹ۔ الوَهْمَة: موٹی اونٹنی۔

٭ وَهَمَ يَهِمُ وَهْماً: تصور کرنا، خیال کرنا، یقین کرنا، فرض کرنا، قیاس لگانا، قیاس آرائی کرنا، اندازہ لگانا۔ — فی: سے غلط مطلب لینا، کو غلط معنی پہنانا، سے غلط معنی نکالنا، کی غلط تاویل کرنا، کی غلط تعبیر کرنا، کے متعلق غلط خیال کرنا۔ وَهِمَ يَوْهَمُ وَهَماً فی: میں یا کے بارے میں غلطی کرنا، غلطی پر ہونا۔ وَهَّمَ و اَوْهَمَ هٗ: میں وہم، بدظنی، بدگمانی، تعصب یا بے بنیاد خوف ڈالنا۔ — هٗ أن: کو یقین دلانا کہ۔ تَوَهَّمَ هٗ: کے وقوع سے پہلے اس کا اندیشہ کرنا، کے وجود پر شک کرنا، فرض کرنا، تصور کرنا، کے مغالطہ میں ہونا، کی خوش فہمی میں ہونا۔ — هٗ هٗ: کو کچھ سمجھنا، یقین کرنا، کو کچھ خیال کرنا، کو غلطی سے کچھ سمجھنا۔ اِتَّهَمَ هٗ: پر شک کرنا۔ — هٗ: پر شک کرنا، کے متعلق شک ظاہر کرنا یا محسوس کرنا، کے متعلق شبہات رکھنا۔ — هٗ بـ: پر کا الزام لگانا، پر کی تہمت لگانا، کو سے منسوب کرنا، پر کا شبہ کرنا، کو کا قصوروار گردانا، کو کا الزام دینا، پر کی تہمت دھرنا، پر کا الزام عائد کرنا۔ تُهْمَة: تہمت، اتہام، الزام، شک، چوٹ (در پردہ الزام)۔ وَهْم جمع اَوْهَام: پرفریب تصور، غلط تاثر یا خیال، تصور، تخیل، مغالطہ، وسوسہ، توہم۔ یقین، عقیدہ، اعتقاد، اٹکل، اندازہ، قیاس، تعصب، غلطی، خود فریبی، خیال، وہم، شبہ، شک، بدگمانی، بے اعتمادی، بدقسمتی کے آنے کا احساس، برا اندیشہ، پیش اندیشگی۔ وَهْمی: خیال کیا ہوا، یقین کیا ہوا، تصور کیا ہوا، قیاسی، فرضی، موہوم،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ذہنی، تصوری، ظاہری، نمایاں، عیاں، آشکارا، فرض کیا ہوا، فرضی، مفروضہ، پرفریب۔ اصراض نفسیہ و وهمية: جذباتی ونفسیاتی بیماریاں۔ وَهْمِيَة: ہوّا، ذہنی صورت، وہم کی پیداوار، وسوسہ، توہم، قیاس، قیاس آرائی، مفروضہ، یقین، تصوری قوت، قوت متخیلہ، پرواز خیال، قوت تخلیق، خیال آرائی، تصور۔ إيهام جمع ايهامات: دھوکہ، فریب، فراڈ، ٹھگی، غلط راہ پر لگانا، غلط خیال دلانا، غلطی کرانا، سراب، وسوسہ، خیال خام، تصور خیال۔ رفع الايهام: تصحیح۔ تَـوَهُّـم: شک وشبہ، بدگمانی، قوت متخیلہ، تصور۔ اتّهـام: شک کرنا، الزام لگانا، الزام، تہمت، فرد جرم لگانا۔ دائرةُ الاتهام: استغاثہ، استغاثہ دائر کرنے کا مجاز۔ قرار الاتهام: دعوی، نالش۔ ورقة الاتهام: فرد جرم کا بل۔ اِتِّهامِية: فرد جرم۔ هيئة الاتهامية: استغاثہ دائر کرنے کا افسر مجاز، استغاثہ۔ وَاهِـمَة: تصور، قوت خیال، قوت واہمہ، خیالی شکلیں پیدا کرنے والی طاقت۔ مَـوْهُـوم: تصور کیا گیا، خیال کیا گیا، گمان کیا گیا، قیاس کیا گیا، قیاسی، فرضی، موہوم، ذہنی، صوری، عجیب سراب آسا، وہمی، خیالی، عجیب و غریب۔ مُتَّهِـم: الزام لگانے والا، الزام عائد کرنے والا، استغاثہ۔ مُتَّهَـم: مشتبہ، شکی، مشکوک، ملزم، جس پر الزام لگایا گیا ہو، جس پر الزام عائد کیا گیا ہو، مدعا علیہ۔ متهمُ المنظر: مشتبہ نظر آنے والا۔

وهن: ا۔ وَهَنَ يَهِنُ وَهْناً ہٗ: کو کمزور کرنا۔ ـــ و وَهُنَ يَوْهُنُ وُهْناً و وَهَناً: معاملہ کام یا بدن میں کمزور ہونا۔ وَهِنَ يَهِنُ وَهْناً و وَهَناً و وَهِنَ يَوْهَنُ وَهَناً بمعنی: وَهُنَ۔ وَهَّنَ و أَوْهَنَ ہٗ: کو کمزور کرنا۔ تَوَهَّنَ الطائرُ: پرندہ کا مردار زیادہ کھانے سے اڑنے پر قادر نہ ہونا۔ ـــ البعيرُ: اونٹ کا لیٹنا۔ الـوَاهِـن (فا): کمزور (ع ا): کندھے کی ایک رگ۔ الـوَاهِـنَة: واہن کا مونث، کمزوری، بازو، گردن کا مہرہ۔ (طب): بڑھاپے میں بازو اور کندھے میں پیدا ہونے والی ریح کی ایک بیماری سب سے نچلی پسلی کہا جاتا ہے۔ انه لشديد الواهنتين: وہ مضبوط، سینے والا۔ الوَهْن (مص) من الرجال او الابل: موٹا اور پستہ قد آدمی یا اونٹ۔ ـــ والوَهَن: کام، معاملہ یا بدن کی کمزوری۔ الـوَهْـنَـانَة من النساء: نازپروردہ ہونے کی وجہ سے کام میں سست عورت۔ الوَهُون: کمزور۔ الـوَهون م مَوْهُونَة: کمزور۔

۲۔ وَهَنَ يَهِنُ وَهْناً و أَوْهَنَ الرجلُ: آدھی رات میں داخل ہونا۔ الـوَهْـن مـن الـلـيـل: آدھی رات یا اس کے بعد کا کچھ حصہ۔ الـمَـوْهِـن من الـلـيـل: آدھی رات یا اس کے بعد کا کچھ حصہ۔

○ وَهَـنَ يَهِـنُ و وَهِـنَ يَهِـنُ و وَهُنَ يَوْهُنُ وَهْناً و وَهَـناً في: کیلئے کمزور ہونا، کیلئے طاقت نہ رکھنا، کے قابل نہ ہونا۔ ـــ: کمزور ہوجانا، نڈھال ہوجانا، طاقت یا ہمت گنوانا یا کھونا۔ لايَهِنُ: ان تھک۔ وَهَّنَ ہٗ: کو کمزور کرنا، کی طاقت ختم کردینا، کی حوصلہ شکنی کرنا، دل شکنی کرنا، کے اوسان خطا کردینا۔ ـــ ہٗ: کو کمزور سمجھنا یا قرار دینا۔ اَوْهَـنَ ہٗ: کو کمزور کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا۔ وَهْـن: کمزور، لاغر۔ وَهْـن و وَهَـن: کمزوری لاغری، از کار رفتگی۔ وَهِـن: فورمین، اور سیر۔ مَوْهِن: رات کی گہرائی۔ وَاهِـن جـمـع وُهُن: کمزور، لاغر، کمزور کیا ہوا، مضمحل، اوسان خطا کیا ہوا، از کار رفتہ، ناتوان، تھکا ہوا، دل شکستہ، یاس زدہ۔

وهی: وَهَـى و وَهِـيَ يَهِي وَهْياً الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ ـــ الشـيءُ: چیز کا ڈھیلے بندھن والا ہونا، بوسیدہ ہونا، کمزور ہونا۔ ـــ الحائطُ: دیوار کا گرنے کے قریب ہونا، گرنا۔ ـــ السحابُ: بادل کا موسلا دھار برسنا۔ ـــ الرجلُ: مرد کا بے وقوف ہونا۔ اَوْهَى اِيْهاءً فلاناً: کو کمزور کرنا، خراب کرنا۔ کہا جاتا ہے: ضَرَبَهُ فاوهى يدَہٗ: اس کو مار کر اس کا ہاتھ توڑ دیا یا اس کو ایسا ہی نقصان پہنچایا۔ الـوَاهِـی جمع وَاهُون و وُهَـاة مونث واهية (فا)۔ الوَهْيُ (مص) جمع وُهِيّ و اَوْهِيَة: دراز، پھٹن۔ الوَهْيَة: اسم مرہ، دراز، پھٹن۔ الوَهِيَّة: موتی، ذبح کرنے کا موٹا جانور۔ الأَوْهِيَّة: پہاڑ کی چوٹی سے وادی تک کا فاصلہ۔

۲۔ وَاهِ و وَاهٍ و وَاهاً و وَاهاً لَهٗ و بِهٖ: وہ کیسی عمدہ چیز ہے! (تعجب کا کلمہ)۔ واهاً على مافات: افسوس اس پر جو ہاتھ سے جاتا رہا (رنجیدگی کا کلمہ)۔

○ وَهَى يَهِي وَهْياً و وَهِيَ وَاهاً: کمزور ہونا، ناتوان ہونا، اخلاقی کمزوری والا ہونا۔ اَوْهَى ہٗ يامن: کو کمزور کرنا، کو ختم کرنا، کی جڑیں کھوکھلی کرنا۔ وَاهٍ جمع وُهَاة: کمزور، ناتواں، پتلا، بے عصمت (عورت)، نازک، جلدی ٹوٹ جانے والا، پھونک، بے لوچ نرم، بھربھرا، خستہ، جوک بآسانی ریزہ ریزہ ہو جائے، ناپائیدار، بودا، غیر مادی، غیر ضروری، غیر اہم، معمولی، ناکارہ، غیر مستحکم، بے بنیاد (عذر، استدلال)۔

ویا: وَيْ: کلمہ تعجب جیسے: وَيْ لِـزيدٍ: مجھے زید سے تعجب ہے، ڈانٹ کے لئے بھی آتا ہے اور ویل سے کنایہ ہوتا ہے: وَيْكَ استمع قولي: تیرا برا ہو میری بات کو غور سے سن (اصل میں ویلک ہے)، دھمکی کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے: وَيْ بِكَ يا فلان۔

○ وَيْ: شامت اعمال! شرم! شرم!

ویب: وَيْبٌ: بمعنی وَيْل۔ وَيْبَكَ و وَيْبٌ لَكَ و ويبٌ لِزيد و وَيْباً لَهٗ: افسوس تجھ پر افسوس زید پر افسوس۔ و وَيْبٌ له: (جر کے ساتھ) اور وَيْبَهٗ و وَيْبَ غيره: (کسرہ اور ضمیر اور ظاہر لفظ کی طرف اضافت کے ساتھ)۔ وويبَ زيد: (فتح اور اضافت کے ساتھ) وَيْبٌ فلانٌ: (کسرہ اور رفع کے ساتھ) ان سب کا معنی الزمه الله ويلاً: اللہ تعالی مصیبت اس کے گلے منڈھے! تعجب کے مقام پر بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے: وَيْباً لهذا: یہ کتنا غیر معمولی ہے۔ اس کے لئے تعجب ہے۔ الـوَيْبَة: مصیبت، شرمندگی۔ (الوَيْلة کی طرح)۔ ـــ جمع وَيْبَات ۲۲ یا ۲۴ مُدّ (ایک پیمانہ کا نام)۔

ویح: وَيْحٌ: رحم اور ترس کھانے کا کلمہ، کبھی مدح و تعجب کے موقع پر آتا ہے اور کبھی ویل کے معنی بھی دیتا ہے۔ وَيْحٌ لزيد و ويحاً لزيد و وَيْحَهٗ: زید کیسا ناخوش ہے! وَيْحَهُ: اس پر ہلاکت ہو۔ الوَاحُ و الواحَةُ الواحات کا واحد: ریگستان میں سبزہ زار۔

○ ويح: حیف! افسوس، ہائے ہائے۔ وَيْحَكَ: تجھ پر ہلاکت ہو۔ ويحاً لِ: اس پر ہلاکت ہو۔

ویخ: وَيْخ بمعنی وَيْح۔

○ وَيْـرْكو: خراج (جو زمانہ قدیم میں مصر کی طرف سے ترکی سلطان کو ادا کیا جاتا تھا)، آبکاری ٹیکس، غیر منقولہ جائداد کا ٹیکس۔

ویس: وَيْسٌ: بمعنی وَيْح۔ الوَيْس: محتاجی، چاہی ہوئی چیز، ناچاہی ہوئی چیز۔ الويستاريا (ن): ایک قسم کا پودا، اس پر بڑے بڑے پھول لگتے ہیں، اس سے دیواریں وغیرہ چھپانے کا کام لیا جاتا ہے۔

ویلک: وَيْلَك: وی اور کاف خطاب سے مرکب کلمہ، تعجب، تجھ پر ہلاکت ہو۔

ویل: وَيَّل تَوْيِيلاً فلاناً و لفلان: کسی کے لئے بہت ویل کہنا۔ تَـوَيَّل: مصیبت کی دعا کرنا، یا ویلی کہنا۔ تَـوَايَلَ الرجُلان: ایک دوسرے کے لئے برائی چاہنا۔ الوَيْل: شر اور برائی کا نزول، ہلاکت، مصیبت۔ کہا جاتا ہے: وَيْلَهُ وَيْلَكَ و وَيْلِي ويلٌ لزيد و ويلاً لـه: اس پر، تجھ پر، مجھ پر، زید پر ہلاکت ہو۔ اللہ ہلاکت اس کے گلے منڈھے۔ ويلاً له الزمه الله

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وَیــــلا کے معنی میں ہے۔ رفع ابتداء کی وجہ سے ہوتا
— جب کہ اضافت نہ ہو۔ ویلٌ وائِلٌ و ونیلٌ و
وَئِل: بہت سخت مصیبت۔ الوَیْلَۃ جمع وَیْلات:
مصیبت، آزمائش، شرمندگی، فضیحت۔ وَیْلُمِّہٖ:
مرکب کلمہ بمعنی ویلٌ لامہ۔ اصل معنی کسی شخص کے
لئے بددعاء، پھر یہ کلمہ تعجب و استحسان کے موقع
پر استعمال ہونے لگا جس طرح کہا جاتا ہے: قَاتَلَہٗ
اللّٰہ اورلا أب لَکَ۔ رَجُلٌ وَیْلُمِّہٖ و وَیْلِمِّہٖ:
(لام کی پیش اور زیر کے ساتھ): تیز فہم آدمی۔
ن وَیْل: بلا، مصیبت، دکھ درد، تکلیف، مصیبت، اذیت،
تنگ دستی، احتیاج، دشواری، بدبختی، رنج، غم، الم،
سوگ۔ وَیْلٌ لَکَ یا وَیْلَکَ: تمہیں مصیبت آئے۔
وَیْلَۃ جمع وَیْلَات: مصیبت، گرفت، بلا، بدبختی،
آسمانی مصیبت، ناگہانی مصیبت، شامت، تکلیف،
اذیت، دکھ درد، تنگ دستی، رنج، غم، الم، سوگ، بدنصیبی،
بدقسمتی، تباہی، نحوست، ادبار، چپٹا، افتاد۔

ویم: الوَیْمَۃ: تہمت، چغل خوری۔

وین: الوَیْن: سیاہ انگور (عبرانی لفظ)، عیب۔ الوَیْنَۃ:
سیاہ کشمش۔

ویہ: وَیْہَ و وَیْہٍ و وَیْہًا: ترغیب یا انگیخت کا کلمہ جو مفرد،
جمع، مذکر و مونث کے لئے یکساں آتا ہے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ھ

ہ ھاء حروف تہجی کا ۲۶واں حرف۔ اور حروف ابجد میں ۵ سے عبارت ہے۔ غائب کے صیغہ کا ضمیر ہوتو نصب اور جر کی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے: قال له صاحبُه و هو يحاورُهُ (اس کو اس کے دوست نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا)۔ (۲) زیر یا ہائے ساکنہ کے بعد مکسور ہوتا ہے اگر اس کے بعد الف نہ ہو۔ باقی حالات میں مضموم آتا ہے۔ (۳) حرف غیبت (هاء) جیسے فی ایاه (اس کو) میں۔ (۴) هاء سکتہ میں ساکن آتا ہے۔ جیسے ماهِيَهْ (وہ کیا ہے)۔ هَاهُنا (یہاں)۔ وا زیداه: (اے زید)۔

ھا۔ ھا۔ خذ (لو) کے معنی میں اسم فعل ہوتا جیسے ھا الکتابَ (کتاب لو)۔ اس کے الف کو کھینچ کر پڑھنا یا لکھنا جائز ہے۔ یہ دونوں خطاب کے کاف اور اس کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ صرف ممدودہ میں کاف کے بغیر اس کی ہمزہ کو کاف کی گردان کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں مذکر کے لئے ھاءَ اور مونث کے لئے ھاءِ اور ھاؤما، ھاؤم اور ھاؤنّ کہا جائے گا۔ مؤنث کا ضمیر ہونے کی صورت میں منصوب اور مجرور ہوتا ہے جیسے: ضربَها و کتابِها۔ چنانچہ ھا ضمیر اور الف تانیث کی علامت ہے۔ تنبیہ کیلئے بھی آتا ہے۔ جیسے اشارہ سے پہلے: ھٰذا و ھذاك ضمیر مرفوع): ھا أنتم اولاء (خبردار تم) ای کی صفت ندا کی صورت میں یاایها الرجُل: (اے آدمی)۔ ھاالله (خدا کی قسم)۔ قسم کی صورت میں لفظ اللہ سے پہلے حرف قسم کو حذف کر کے)

ھیء: ھِیءُ ھِیءُ: چارے کیلئے اونٹوں کو بلانے کی آواز۔

ھا: ھَأْھَأَ ھِنْھَاءً و ھَأْھَاءً: ٹھٹھا مار کر ہنسا، قہقہہ لگانا۔ صفت ھَأْھا و ھَأْھاءٌ۔ ۔ بالإبل: اونٹوں کو چارہ کیلئے لاتے ہوئے ھِیْ ھِیْ کہنا یا ڈانٹتے ہوئے ھَأْھَا کہنا۔ اسم الھِیءُ۔

ھَأْھَأ: اونٹوں کو ڈانٹنے کی آواز۔ جاریةٌ ھَأْھَاءَةٌ: اکثر یا ہمیشہ ہنسنے والی لڑکی۔ ھَـؤُلاءِ: یہ، یہ کئی۔ (ھا تنبیہ کیلئے اور اولاء جمع کیلئے اسم اشارہ)۔

ھا: ہاں۔ دیکھو۔ وہاں۔ ھَاھُوَ: دیکھو۔ وہ وہاں ہے۔ ھا انتُمْ: تم وہاں۔ ھٰذَا م ھٰذِهِ، ھذی جمع ھولاء تثنیہ ھٰذانِ م ھَاتَانِ: یہ ایک، یہ۔ ھٰذاكَ م ھَاتِيْكَ جمع ھَؤُلَائِكَ: وہ، وہ ایک۔ ھَكَذَا: اس طرح، یوں۔ و ھَكَذَا: وغیرہ۔ علی ھذا القیاس۔ ھَاھُنا: یہاں۔ ھاء نذا و ھَأ نذا و ھاأنتَ ذا و ھاأنتذا و ھَاھُوَ ذا، ھَانَحْنُ اُولَاءِ: میں ہی۔ تم وہاں، یہ ایک، وہ ایک، وہ، ہم یہاں وغیرہ میں یہاں ہوں، تم وہاں ہو وغیرہ۔ ھَاكَ جمع ھَاكُمْ: یہاں، اس کو لو، تم وہاں ہو، وہاں تم نے۔ ہے، ہیں۔ ھَاكَهُ: وہ وہاں ہے۔ ھَاء جمع ھاء ات: ھ کا حرف۔ ھابیل: ہابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ ھاتِ جمع ھَاتُوا: مجھے (ہمیں) دو، میرے (ہمارے) پاس لاؤ، مجھے (ہمیں) لینے دو۔ ھاتور: نومبر (مہینہ کا نام)۔

ھب: ھَبْ: وَھَبَ سے فعل امر، فرض کرو، خیال کرو۔ کہا جاتا ہے: ھَبْنِی فَعَلْتُ: فرض کرو میں نے کیا۔

ھبّ: ۱۔ ھَبَّ ـ ھُبُوبًا و ھَبِيبًا و ھَبَّات الريحُ: ہوا کا چلنا۔ الرجُل من النوم: نیند سے جاگنا، بیدار ہونا۔ ــ النجمُ: ستارہ کا طلوع ہونا۔ ــ ھَبًّا و ھُبُوبًا ھَبِيبًا و ھِبَابًا: چست و تیز قدم ہونا۔ ــ یفعل کذا: وہ ایسا کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے: من این ھَبَبْتَ: تم کہاں سے آئے؟ ــ ھَبًّا و ھَبَةً السیفُ الشیءَ: تلوار کا چیز کو کاٹنا۔ ــ ھَبًّا و ھُبُوبًا السیفُ: تلوار کا ہلنا۔ ــ فی الحرب: جنگ میں شکست کھانا۔ ــ ھِبابًا الرجُلُ: ایک زمانہ تک غائب رہنا۔ کہا جاتا ہے: ھبَّ فلانٌ حینًا ثم قدم: فلاں شخص کچھ عرصہ غائب رہ کر آیا۔ این ھَبَبْتَ عَنَّا: تم کہاں غائب رہے۔ ھَبَّبَ تَھْبِيبًا الثوبَ: کپڑا اپھاڑنا۔ اَھَبَّ السیفَ: تلوار ہلانا۔ ــ الریحَ: ہوا چلانا۔ ــ هُ من نومه: کو نیند سے جگانا، بیدار کرنا۔ اِھْتَبَّ الشیءَ: کو کاٹنا۔ اِسْتَھَبَّ الریحَ: ہوا کو چلانا، ہوا چلنے کی خواہش کرنا۔ الھَبَّة: ھَبَّ کا اسم مرۃ (کہا جاتا ہے: رأیتُهُ ھَبَّةً: میں نے اسے ایک بار دیکھا) سحر کا آخری گھنٹہ۔ زمانہ کی ایک مدت۔ (کہا جاتا ہے: احذرْ ھَبَّةَ السیفِ: تلوار کی ضرب سے ڈر)۔ الھِبَّة: تلوار کی کاٹ اور اس کا ہلنا۔ ــ ج ھِبَب: اسم نوع، حال۔ الھَبَاب: ہوا میں اڑنے والے ذرات۔ الھَبّاب: بہت گرد و غبار اڑانے والی ہوا۔ الھَبُوب و الھَبُوبة و الھَبِيب من الریاح: گرد و غبار اڑانے والی ہوا۔ المَھَبُّ جمع مَھَاب: ہوا چلنے کی جگہ یا سمت۔

۲۔ تَھَبَّبَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ الھِبَّة جمع ھِبَب: کپڑے کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے: ثوبٌ ھَبَائِب و ھِبَب و اَھْبَاب: کٹا پھٹا کپڑا۔

۳۔ ھَبْھَبَ الرجُلُ: جلدی چلنا، نیند سے بیدار ہونا۔ ــ السرابُ: سراب کا چمکنا۔ ــ هُ: کو ڈانٹنا۔ ــ الکبشَ: مینڈھا ذبح کرنا۔ تَھَبْھَبَ الشیءُ: حرکت کرنا، ہلنا۔ الھَبْھَب: تیز رفتار۔ (ح) ہلکا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چھلکا بھیڑیا۔ الهُبْهَاب: تیز رفتار، چلانے والا، سراب۔ الهُبْهُبِيّ م هُبْهُبِيَّة: اچھی حدی گانے والا، خوش آواز، حدی خواں، باورچی، بکریوں کا چرواہا، گوشت بھوننے والا، قصاب، خوب محنت و مشقت کرنے والا، تیز رفتار۔ ہلکا پھلکا اونٹ۔

ھانم جمع ھوانم: خاتون (lady)، عورت۔ ھَوانِمِي: خاتون نما، عورت نما، زنانہ، نسوانی، نسائی۔

ھاواي: ہوائی، (جزیرہ کا نام)۔ ھاوُن و ھَاوُون جمع ھَوَاوِين و أهوان: کونڈی، کھرل۔ مِدْفَعُ الهاوُن: اونچا گولہ پھینکنے والی چھوٹی توپ، چھوٹی بالا انداز توپ (mortar)۔

ھايتي: ہایتی (Haiti)۔

هَبَّ يَهُبُّ هَبًّا: حرکت میں آنا، چلنے لگنا، حرکت کرنے لگنا۔ ـــ إلى: تک پہنچنا، پر حملہ کرنا، کو کرنا، پر غور کرنا، سنبھالنا، کا آغاز کرنا، سے شروع کرنا، کچھ کرنے لگنا۔ هَبَّ يفعل: کرنے لگنا۔ ـــ إلى: پر بلند بولنا، جھپٹنا۔ هَبَّ: جاگنا، بیدار ہونا۔ ـــ من: نیند سے جاگنا، بیدار ہونا۔ ـــ على: کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، کے خلاف بغاوت کرنا۔ هَبَّ ـهَبًّا و هُبُوبًا و هَبِيبًا: (ہوا) کا چلنا، (طوفان) کا آگ بگولا ہونا، طیش میں آنا، تندی دکھانا، (آگ) کا یکا یک لگ جانا، یا شروع ہونا یا پھیلنا۔ ـ على (خوشبو کا) کی طرف اڑ کر جانا۔ اڑ کر کی سمت ڈھیر لگنا، سے ملنا۔ هَبَّ لِلحرب: جنگ میں داخل ہونا، ہتھیار اٹھانا۔ هَبَّ لِمُقَاوَمَة: مخالفت میں ہتھیار اٹھانا، ہتھیار لے کر اٹھنا۔ هَبَّ واقفا: کھڑا ہونا۔ هَبَّتْ رِيحُهُ: فارغ البال ہونا، مزے میں ہونا، فارغ البالی یا آرام یا آسائش سے ہونا، خوش نصیب ہونا۔

هَبَّ فيه الكلبُ: کتے نے اس پر حملہ کیا، پر جھپٹا۔ كُلُّ مَنْ هَبَّ و دَبَّ: ہر شخص اور اس کا بھائی۔ ہر ماجھا ساجھا۔ هَبَّبَ ہ: کو پھاڑنا، چیرنا، کے ٹکڑے کر دینا، کو دھویں سے کالا کرنا، کو اناڑی پن سے کرنا، (کام) بگاڑ دینا۔ أَهَبَّ ہ من: کو (نیند) سے بیدار کرنا۔ تَهَبَّبَ: چر جانا، پھٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ هَبَّة: جھکڑ، ہوا یا بارش کا زور کا جھکڑ۔ هَبَاب: عمدہ راکھ۔ هِبَاب: دھواں۔ هَبُوب: تند ہوا، طوفانی ہوا، تند ہوا کا جھونکا، جھکڑ، نسیم سحری فرحت بخش ہوا۔ هُبُوب: ہوا کا چلنا۔ مَهَبّ جمع مَهَابّ: جگہ جہاں یا جہاں سے ہوا چل رہی ہو، ہوا کا رخ، موسم یا ہوا کی سمت یا پہلو، ہوا کا چلنا۔ في مَهَبِّ الريح: طوفان کا اڑایا ہوا، طوفان کے خطرے میں، جس کو طوفان کا خطرہ در پیش ہو۔

هبت: ۱۔ هَبَتَ ـهَبْتًا ہ: کو مارنا، کا سر جھکانا، کا مرتبہ گھٹانا۔ ـــ ہ بالسيف: کو تلوار مارنا یا تلوار سے ضرب لگانا۔ هُبِتَ الرجُلُ: بزدل اور بے وقوف ہونا۔ صفت: هَبِيت و مَهْبُوت۔ الهَبْتَة: هبت کا اسم مرہ۔ کمزوری، کہا جاتا ہے: في عقله هبتة: اس کی عقل میں کمزوری ہے، اس کی عقل کمزور ہے۔

۲۔ الهَبْتَر: پستہ قد۔

هَبَتَ ـهَبْتًا ہ: کو پچھاڑ دینا، کو کسی ضرب سے بے ہوش یا وقتی طور پر ناکارہ کر دینا، کو گرا دینا، کو زمین پر پٹخنا۔ هُبِتَ: دل شکستہ ہونا، یاس زدہ ہونا، بزدل ہونا، بے ہمت ہونا، دھیمے فہم والا ہونا۔ هَبِيت: دل شکستہ، یاس زدہ، بزدل، بے ہمت دھیمے فہم والا۔

هبج: هَبَجَ ـهَبْجًا ہ بالعصا: کو لاٹھی سے لگاتار مارنا۔ هَبِجَ ـهَبَجًا وجهُ الرجُلِ: کے چہرے کا پھولنا، سوجنا صفت: هَبِجٌ۔ هَبَّجَ ہ: کو متورم کرنا۔ تَهَبَّجَ: متورم ہونا۔ المُهَبَّج: سست کند ذہن۔ المِهْبَاج: بزدست، موگری (عام زبان میں)۔

هبد: هَبَدَ ـهَبْدًا الهَبِيدَ: اندرائن کے بیج چن کر پکانا۔ ـــ فلانًا: کو اندرائن کے بیج کھلانا۔ تَهَبَّدَ و اهْتَبَدَ الهَبِيدَ: اندرائن کے بیج چن کر پکانا۔ الهَبِيد (ن): اندرائن یا اس کے بیج۔ الهَبِيد واحد هَبِيدة: اندرائن یا اس کے بیج۔ الهَوَابِد: اندرائن کے بیج چننے والیاں۔

هبذ: هَبَذَ ـهَبْذًا و هابَذَ و أَهْبَذَ و اهْتَبَذَ الفرسُ او الطائرُ: گھوڑے کا تیز چلنا، پرندے کا تیز اڑنا۔ الهَابِذَة جمع هَوَابِذ: تیز رفتار اونٹنی۔

هبر: هَبَرَ ـهَبْرًا اللحمَ: گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹنا۔ کہا جاتا ہے: هبر له من اللحم هَبْرَةً: اس نے اس کے لئے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ هَبَرْنَاهُم بالسيوف: ہم نے انہیں تلواروں سے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا۔ هَبِرَ ـهَبَرًا البعيرُ: اونٹ کا پر گوشت ہونا۔ أَهْبَرَ الرجلُ: خوشنما موٹا ہونا۔ أُهْتُبِرَ فلانًا بالسيف: کو تلوار سے کاٹنا۔ ـــ البعيرُ: اونٹ کا دبلا پتلا ہونا۔ الهَبْر (مص) واحد هَبْرَة: گوشت یا بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا۔ ـــ في القراءة: آیت پر وقف کرنا (جو ناپسندیدہ ہے)۔ کہا جاتا ہے: ضَرْبٌ هَبْرٌ و هَبِيْرٌ: گوشت کے ٹکڑے کرنے والی ضرب۔ الهُبْر: انگور کا بیج، جو کتان سے گرے۔ الهَبِر م هَبِرَة من الجمال: بہت گوشت والا اونٹ۔ کہا جاتا ہے: بعيرٌ هَبِرٌ وَبِرٌ: بہت گوشت اور بالوں والا اونٹ۔ الهبر: کہا ہوا

الهُبَارِيَة: باریک اڑنے والے پر، بالوں کی جڑوں کی بھوسی۔ رِيحٌ هُبَارِيَة: گرد آلود ہوا۔ الهِبْرِيَة: روئی کا اڑنے والا رُواں، پروں یا بانس اور نرکل کے ٹکڑے، اڑنے والے باریک پر، سر کی بھوسی۔ جسے قشرة الرأس بھی کہا جاتا ہے: الهُبَيْرَة (ح): بجو۔ ابو هُبَيْرَة: مینڈک۔ اُمّ هُبَيْرَة: مینڈکی۔ الأَهْبَر م هَبْراء جمع هُبْر: پر گوشت، بہت گوشت والا۔ الهَبَّار: بہت بالوں والا بندر۔ سيفٌ هَبَّار: کاٹنے والی تلوار۔ الهَبُور (ح): مکڑی۔ الهَبُور: چھوٹی چیونٹی، کھیتی کے گرے ہوئے خوشے، بتے۔

۲۔ الهَبْر جمع هُبُور و هُبُر: پست ریت یا زمین کا قطعہ۔ الهَبِير جمع هُبُر و أَهْبِرَة: پست زمین جس کے چاروں طرف بلندی ہو۔

۳۔ هَبْرَجَ الرجُلُ: ڈگمگا کر چلنا۔ الهَبْرَج: ڈگمگا کر چلنے والا، لمبی دم کا، اترا کر یا اکڑ کر چلنے والا، بہت موٹا۔ (ح) بیل (ح) بوڑھا ہرن۔ الهِبْرِج: بہت موٹا۔

المُهَبْرَج من الاوتار: خراب تانت۔

۴۔ هَبْرَجَ الثوبَ: کپڑے کو نقش و نگار سے آراستہ کرنا۔ الهَبْرَج: منقش کپڑا۔

۵۔ الهَبْرَج: تیز چال۔

۶۔ الهِبْرِزِي: گھوڑے کے کنگن، نیا دینار، ہر عمدہ خوشنما چیز۔ (ح): شیر، عمدہ موزہ، خالص سونا۔

۷۔ تَهَبْرَسَ: اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، کلول کرنا، کلیلیں کرنا (گھوڑے کا)۔

هَبَرَ ـهَبْرًا ہ: کو دانتوں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کی دانتوں سے صورت بگاڑنا۔ ـــ ہ: گوشت کو بڑے بڑے پارچوں میں کاٹنا۔ هَبْر: ہڈی دار گوشت۔ هَبْرَة: گوشت کا ٹکڑا یا قتلا۔ هُبَيْرَة: چرخ لکڑ بگا۔ ابو هُبَيْرَة: مینڈک۔

هبز: هَبَزَ ـهَبْزًا و هُبُوزًا و هَبَزَانًا: مرنا یا اچانک مرنا۔

هبش: هَبَشَ ـو هَبِشَ ـهَبْشًا الرجلُ: پوری مٹھی سے دوہنا۔ ـــ الشيءَ: کو جمع کرنا، کو پہنچنا۔ ـــ فلانًا: کو دردناک ضرب لگانا۔ ـــ لِعيالِه: بال بچوں کے لئے کمانا۔ هَبَّشَ تهبيشًا المالَ: مال جمع کرنا۔ ـــ ہ: کو نوچنا، کھرچنا، چھیلنا، ناخن مارنا، پنجہ مارنا۔ تَهَبَّشَ القومُ: قوم کا جمع ہونا۔ ـــ الشيءَ: چیز کو جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے: خَرَجَ يُتَهَبَّشُ لِعياله: وہ نکل کر اپنے بال بچوں کے لئے مال جمع کرنے اور کمانے لگا۔ اِهْتَبَشَ المالُ: مال جمع ہونا۔ ـــ الشيءَ: چیز کو جمع کرنا۔ ـــ منه عطاءً: سے بخشش پانا۔ الهابِشَة:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جماعت ـــ و الهَبَاشة جمع هَرَابِش و هُباشات: مختلف قبیلوں کی جماعت ـ الهُبَاشَات: کمائیاں، کمائے اور جمع کئے ہوئے مال ـ الهَبَّاش: بہت کمائی اور جمع کرنے والا۔

○ هَبَتَ ـ هُبْتَاب. ہاتھ یا پنجوں سے پکڑنا، چھین لینا، جھپٹ لینا یا مضبوطی سے پکڑنا۔

هبص: هَبَصَ ـ و هَبِصَ ـ هَبْصًا و هَبَصًا: پھرتیلا اور چست ہونا ـــ الكلبُ: کتے کا شکار کا حریص ہونا ـ علی الشیءِ: کی حرص میں بیقرار اور بیتاب ہونا ـ صفت هَبِص ـ اِهْتَبَصَ فی العمل: کام میں جلدی کرنا ـــ فی المشی: تیز چلنا ـــ و اِنْهَبَصَ للضحك: بہت ہنسنا ـ الهَبَصَی: تیز چال ـ کہا جاتا ہے مشی الهَبَصَی: وہ تیز چلا۔

هبط: هَبَطَ ـ هَبْطًا ه من الجبل: کو پہاڑ سے اتارنا ـــ بلدَ كذا: کسی شہر میں داخل ہونا ـــ السوقَ: بازار میں پہنچنا ـــ الوادیَ: وادی میں اترنا ـ صفت: هَبَّاط ـــ فلانًا البلدَ: کو شہر میں داخل کرنا ـ المرضُ لحمَهُ: کو بیماری کا کمزور اور دبلا پتلا کرنا ـــ ثمنَ السلعة و من ثمنها: سامان کی قیمت گھٹانا ـــ فلانًا: کو مارنا ـــ هُبُوطًا فلانٌ من الجبل: پہاڑ سے اترنا ـ الثمنُ: قیمت کا گھٹنا ـ فلانٌ: خاکساری کرنا ـ من موضع إلی آخر: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ـ الحائِطُ: دیوار کا گرنا (عام زبان میں) کہا جاتا ہے هَبَطَ من الخشية: خوف زدہ ہونا ـ کہا جاتا ہے هَبَطَهُ الزمانُ: زمانہ کا کسی کو امیری سے غریبی میں لے آنا، مفلس و قلاش کر دینا ـ هَبَّطَ العِدل: بوری کو اونٹ پر درست کر کے رکھنا ـ أَهْبَطَ ه: کو اتارنا ـــ الثمنَ: قیمت گھٹانا ـ تَهَبَّطَ من كذا: سے نیچے اترنا ـــ الشیءُ: بجھنا ـ اِنْهَبَطَ الرجُلُ: گرنا ـ الهَابط (فا): لاغر ـ الهَبْط (مص): نقصان، کمی، شر میں پڑنا، ذلت، کہا جاتا ہے اللّٰهمَّ غَبْطًا ولا هَبْطًا: اے اللہ ہم کو رشک کی حالت میں رکھ اور ذلیل نہ کر ـ الهَبْطَة: اسم مرہ، پست زمین ـ کہا جاتا ہے هم فی هبطة من الارض: وہ گھاٹی میں ہیں ـ الهَبُوط: ڈھلوان زمین ـ الهَبِيط: دبلا، لاغر ـ المَهْبَط: اترنے کی جگہ ـ قُطب منفی: منفی برقیرہ (Cathod) المَهْبُوط: دبلا، پتلا ـ رجُل مَهْبُوط: غریب، مفلس، آدمی۔

○ هَبَطَ ـ هُبُوطًا: اترنا، نیچے جانا، نیچے آنا، گرنا، رہنے لگنا، بیٹھ جانا، ڈھلوان ہونا، زمین پر گر جانا، (چھت کا) گر جانا ـــ ه: ہوائی جہاز، مسافروں کا، کسی ملک میں اترنا ـــ: (جسم کا) دبلا پتلا، لاغر یا کمزور ہونا ـ (ہوا، آگ وغیرہ کا) گھٹنا، فرو ہونا، عام سطح پر آ جانا، رک جانا، ختم ہو جانا، (قیمتوں کا) گھٹ جانا، کم ہو جانا ـــ ه: کسی جگہ جانا، یا آنا ـــ هَبْطًا و اهْبَط ه/ه: کو اتارنا، نیچے کرنا، نیچے لانا، نیچے بھیجنا، نیچے گرانا، نیچے پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا ـــ ه: قیمت گھٹانا، کم کرنا، نچلی جگہ آنا ـ هَبْط: کمی، گھٹاؤ ـ هَبْطَة: اترنا، گرنا، نشیب، گڑھا ـ هُبُوط: ڈوبنا، گرنا، جھکاؤ، اترنا، کمی، تخفیف، قیمت کا گھٹنا، کمزوری، لاغری، سرد بازاری، ہوائی جہاز کا زمین پر اترنا ـ هُبُوطٌ اضطراری: ہوائی جہاز کا ہنگامی طور پر اترنا ـ هُبُوطُ الرَحِم: اسقاط الرحم ـ بچہ دانی کا نیچے گرنا یا سرک جانا ـ هَبُوط: ڈھلان، جھکاؤ، تنزل، ڈھلوانیا کھڑی چٹان ـ هَبِيط: دبلا پتلا، نحیف، لاغر، ضعیف، ناتواں، کمزور، تھکا ہوا ـ اُهْبُوطَة جمع هَابِيط: پیراشوٹ (parachute)، (ہوا سے زمین پر بحفاظت اترنے کی چھتری، محافظ چھتری ـ مَهْبِط جمع مَهَابِط: گرنے یا اترنے کی جگہ، ہوائی اڈے میں طیارے کی سڑک (runway)، گرنا، جائے پیدائش، گہوارہ (مجازاً)، قطب منفی، منفی برقیرہ (cathode) ـ مهبط الوحی: اسلام کا گہوارہ ـ فی مهبط الغروب: سورج غروب ہونے کے وقت ـ هَابِط: اترنے والا، گرنے والا، ڈوبنے والا ـ هابط بالمِظَلَّةِ الوَاقِية: محافظ چھتری کے ذریعے اترنے والا pratrooper ـ مَهْبُوط: دبلا پتلا، لاغر، ناتواں نحیف، تھکا ماندہ۔

هبع: هَبَعَ ـ هَبْعًا و هُبُوعًا الحمارُ: گدھے کا سست چال چلنا، ہر ایسی حالت والا بھی هَبَعَ کے معنی میں آتا ہے ـ صفت هَبِع ـ البعیرُ: اونٹ کا گردن پھیلا کر چلنا ـ بِعنقه: تیز چلنا اور اپنی گردن سے مدد لینا صفت هَابِع و هُبُوع ـ اِسْتَهْبَعَ البعیرَ: اونٹ کو گردن پھیلا کر چلوانا ـ الهُبَع جمع هُبَعَات و هِبَاع م هُبَعَة جمع هُبَعَات (ح): گدھا، گرمی میں پیدا ہونے والا اونٹ کا بچہ ـ اِبل هُبَّع: گردن لمبی کر کے تیز چلنے والے اونٹ ـ المُهْبِع: گرمی میں پیدا ہونے والے اونٹ کے بچوں کا مالک۔

هبغ: هَبَغَ ـ هُبُوغًا و هَبَغًا الرَجُلُ: سونا ـ الهَبْغَة: نیند ـ الهِبْيَغ: بہت سونے والا۔

هبك: اِنْهَبَكَتْ بِه الارضُ: زمین کا کسی کو نگل لینا، دھنسا دینا ـ الهُبَكَة جمع هُبَكَات و هُبَك: بیوقوف، وہ زمین جس میں قدم دھنسیں۔

هبل: اهَبِلَ ـ هَبَلَتْ فلانًا امُّهُ: ماں کا اپنے فرزند کو گم کر دینا صفت هَابِل: بددعا میں کہتے ہیں هَبِلَتْهُ اُمُّهُ: اس کی ماں اسے گم کرے، اکثر و بیشتر مدح، تحسین و پسندیدگی میں ما اعْلَمَهُ وما اصوب رأيَهُ: (وہ کتنا عالم ہے، اس کی رائے کتنی درست ہے) کے معنی میں مستعمل ہے ـ هَبَّلَ فلانًا: کسی سے هَبِلَتْكَ امّك کہنا ـ أَهْبَلَ الرجُلُ: مرد کا لڑکے سے اس کی موت کی وجہ سے محروم ہو جانا ـ اِهْتَبَلَ علی ولده: بے اولاد ہونا ـ الهَبُول: عورت جو اپنے بیٹے سے اس کی موت کی وجہ سے محروم ہو جائے ـ المُهَبَّل: جسے هَبِلَتْكَ اُمّك (تیری ماں تجھ سے تیری موت کی وجہ سے محروم ہو) کہا جائے ـ المَهْبُولُ (مفع): جس سے اس کی ماں اس کی موت کی وجہ سے محروم ہو جائے۔

٢ـ هَبَلَ الرجُلُ لِعياله: آدمی کا اپنے اہل و عیال کے لئے کمانا ـ اِهْتَبَلَ لِعيالِه: اپنے اہل و عیال کے لئے کمانا ـــ فلانٌ: بہت جھوٹ بولنا اور حیلہ بازی کرنا ـ الصيدَ: شکار کو دھوکا دینا ـــ الشیءَ: کو غنیمت سمجھنا ـ کہا جاتا ہے اِهْتَبَلَ كلمةَ حكمةٍ: اس نے دانائی کی بات کو غنیمت جانا ـ کہا جاتا ہے اِهْتَبِلْ هَبْلَكَ: اپنی راہ چل ـ الهَابِل: کمانے والا، حیلہ گر ـ الهَبَل (مص): حالت ـ الهَبِل: حیلہ گر (ح): بھیڑیا ـ الهِبِلّ و الهِبَلّ: حیلہ گر ـ الهَبَال: واحد هَبَالَة (ن): ایک درخت جس کی لکڑی سے تیر بناتے ہیں ـ الهَبَالَة: طلب، التماس، درخواست ـ کہا جاتا ہے: ناله بِهَبَالَةٍ: اس نے وہ چیز التماس سے حاصل کی ـ الهُبَالَة: غنیمت ـ الهَبَّال: حیلہ گر، کمانے والا، شکاری جو شکار کو دھوکا دیتا ہو ـ المُهْتَبِل: جھوٹا۔

٣ـ هَبَّلَ و أَهْبَلَ اللحمُ فلانًا: کسی پر گوشت تہہ بہ تہہ چڑھنا ـ الهَابِل: بہت گوشت اور چربی والا ـ الهِبِلّ والهِبَلّ: بڑا یا لمبا آدمی ـ المُهَبَّل: پرگوشت سوجے ہوئے چہرے والا۔

٤ـ هَبَّلَ الشیءَ عند العامّة: کو شعلوں کے سامنے کرنا ـ الهَبْلَة عند العامة: شعلے بخارات ـ لحمٌ مُهَبَّل: آگ پر رکھا ہوا گوشت۔

٥ـ أَهْبَلَ الرجُلُ: عقل و تمیز کھو دینا ـ الهَبَل عند العامّة: بے وقوفی، عقل کی کمزوری ـ الهَبَالة: عقل و تمیز کا فقدان ـ الهَبِيل: بے وقوفی (عام زبان میں) الأَهْبَل ج هُبْ: عقل و تمیز سے عاری ـ المُهَبَّل: پاگل ـ المَهْبُول عند العامة: بے وقوف۔

٦ـ هُبَل: کعبہ میں زمانہ قبل از اسلام رکھے ہوئے ایک بت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کانام۔البُبْلَة: بوسہ۔الهِبلَ (ن) ایک درخت۔ الهِبلَی نازکی چال۔کہا جاتا ہے:هو یمشی الهِبلَی وہ نازسے چلتا ہے۔الهِبْل ہلکا پھلکا۔

⊙ هبل - هَبَلا ماں کا بیٹا مرجانا۔هَبّلَ بھاپ کا غسل لینا۔اهتبل ہ (موقع) سے فائدہ اٹھانا۔اهْتَبَلَ سازباز کرنا،سازش کرنا۔اِهْتَبِلْ هَبَلَكَ خواہ مخواہ دخل در معقولات نہ کرو،اپنے مفادات کو نظر میں رکھو، اپنے معاملات کی نگہداشت کرو۔هَبَلّ: لمبا ہٹا کٹا آدمی۔هَبِل احمق،گدھا۔اَهْبَل م هَبْلاء جمع هُبْل دھیمے فہم کا،کمزور ذہن (کا)،کم عقل (کا)، خبطیوں کا سا۔مَهْبِل و مَهْبَل جمع مَهَابِل: اندام نہانی،فرج،رحم کا راستہ۔مَهْبَلِی فرج کے متعلق۔مَهْبُول بیوقوف،احمق،خبطیوں کا سا،ضعیف العقل، کوڑھ مغز،غبی،کودن،سادہ لوح،گاؤدی۔

هبن ۱۔الهَبَنّ بیوقوف،پستہ قد،

۲۔الهَبَنّك بیوقوف،کمزور،چغل خور۔الهَبَنّكَة: الهَبَنّك کا مؤنث،ست۔

هبو: هَبَا يَهْبُو هُبُوًّا الغبارُ گردوغبار کا بلند ہونا۔۔۔ الرمادُ: راکھ کا مٹی سے ملنا۔۔۔ الفرسُ گھوڑے کا بھاگ جانا۔۔۔ فلانٌ: مرنا۔أَهْبَى إِهْبَاءً الفرسُ: گھوڑے کا گردوغبار اُڑانا۔تَهَبَّى تَهَبِّيًا: دونوں ہاتھ جھاڑنا۔الهَابِي: قبر کی مٹی ۔۔ جمع هُبّى (فا): کہا جاتا ہے نجوم هُبَّى: غبار میں چھپنے والے ستارے۔هذا موضع هَابِي التراب: اس جگہ کی مٹی گردوغبار کی طرح پتلی ہے۔ترابٌ او رمادٌ هابٍ: فضا میں پھیلی ہوئی مٹی یا راکھ۔الهَبَاء جمع أَهْبَاء: گردوغبار،باریک مٹی کے ذرات جو زمین پر بکھرے ہوں،کم عقل لوگ۔الهَبَاءَة: گردوغبار کا قطعہ۔هُبَايَةُ الشجر: درخت کی چھال۔الهَبْوَة جمع هَبَوَات و أَهْبَاء گردوغبار۔أَهْبَاءُ الزوبعة: بگولہ۔

۲۔هَبَا يَهْبُو هُبُوًّا الرجُلُ: آہستہ چلنا۔الهَبِيُّ م هَبِيَّة: چھوٹا لڑکا۔المُتَهَبِّي: کمزور نظر والا۔

⊙ هَبَا - هُبُوًّا (گردوغبار۔دھویں کا) ہوا میں بلند ہونا، بھاگ جانا،فرار ہو جانا،رفو چکر ہو جانا،چھلانگ لگانا۔ هَبْوَة: گردوغبار کا بھنور۔گرداب۔هَبَاء جمع أَهْبَاء: باریک غبار،ہوا میں تیرنے والے گرد و غبار کے ذرات۔هَبَاءٌ مَنْثُورٌ سب طرف بکھرے ہوئے ذرات۔ذَهَبَ هَبَاءً: غائب ہو جانا،تحلیل ہو کر معدوم ہو جانا،تانیں تامیں فش ہونا۔ذَهَبَ هَبَاءً منثورا یا ضاعَ هباءً منثورا: دھواں ہو جانا،ناکام رہنا۔ذهب به هباءً کسی چیز کو تباہ کرنا،کو ناکام بنا دینا،کو ہر طرف بکھیر دینا۔هَبَاءَة: گردوغبار کا ذرہ۔

هت ۱۔هَتَّ - هَتًّا الكلامَ: خوش بیانی سے گفتگو کرنا۔ ۔ الماءَ پانی گرانا ۔۔ ت المرأةُ غَزْلَها عورت کا مسلسل کاتنا۔۔ فلانٌ في كلامه: تیزی سے بولنا۔ ۔ هَتِيتًا البَكْرُ جوان اونٹ کا آواز نکالنا۔الهَتّات ہلکا پھلکا،بہت باتیں کرنے والا۔المِهَتّ: بمعنی الهَتّات۔

۲۔هَتَّ - هَتًّا الثوبَ او العِرضَ: کپڑا پھاڑنا،ہتک عزت کرنا۔هَتَّهُ بكذا: اُس نے اس معاملہ میں اسے قصوروار ٹھہرایا (اس نے اس کو اس بات پر الزام دیا)۔۔۔ فلانًا: کا مرتبہ گھٹانا ۔۔۔ وَرَقَ الشجر درختوں کے پتے گرانا ۔۔۔ الشيءَ: کو توڑنا،ریزہ ریزہ کرنا۔الهَتّ: مص۔کہا جاتا ہے:تركهم هَتَّابَتًّا: اس نے انہیں ٹوٹا پھوٹا یا کٹا پھٹا چھوڑا۔اس نے ان کو توڑ ڈالا۔کاٹ ڈالا۔

۳۔هَتْهَتَ الشيءَ: کو توڑنا ۔۔ البعيرَ: پانی پیتے وقت اونٹ کو ہَت ہَت کہہ کر ڈانٹنا ۔۔ في الكلام: جلدی جلدی بولنا۔الهَتْهَات: ہلکا پھلکا،تیز بولنے والا۔

هتأ: هَتَأَ يَهْتَأُ هَتْأً ہ بالعصا و نحوها: کو لاٹھی وغیرہ مارنا ۔۔ الطعامَ: کھانا کھانا ۔۔ الرجُلُ: ٹیڑھا ہونا،کبڑا ہونا۔تَهَتَّأَ تَهَتُّؤًا الثوبُ: کپڑے کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا،بوسیدہ ہونا۔الهَتْءُ والهِتْءُ والهَتِيءُ والهِتَاءُ والهِتِيءُ والهِيتَاءُ والهَتَاةُ: وقت۔کہا جاتا ہے مضى من الليل هَتْءٌ: رات کی ایک گھڑی گزر گئی۔الهَتَأ و الهُتُوءُ: شگاف،پھٹن۔الأَهْتَأ: کبڑا۔

هتر: ا۔هَتَرَ - هَتْرًا عِرضَ فلانٍ: کی ہتک عزت کرنا ۔۔۔ الكِبَرُ فلانًا: بڑھاپے کا کسی کی عقل کو خراب کر دینا۔هَتَّرَ عِرضَ فلانٍ: کی بہت ہتک عزت کرنا۔هَاتَرَ مُهَاتَرَةً ہ: کو گالیاں دینا،کی توہین کرنا۔أُهْتِرَ الرجُلُ: کی بڑھاپے،بیماری یا غم سے عقل جاتی رہنا۔صفت مُهْتَرٌ۔أُهْتِرَ فلانٌ: کسی چیز کے بارے میں کچھ کہنے کا عادی ہونا۔أُهْتِرُوا في ذكر الله: اللہ کے ذکر میں شیدائی ہونا۔تَهَاتَرَ الرجُلان: ایک دوسرے پر جھوٹا دعوی کرنا۔کہا جاتا ہے تَهَاتَرَتِ الشهاداتُ: گواہیوں نے ایک دوسرے کی تردید کی۔اِسْتُهْتِرَ فلانٌ: اندھا دھند خواہش پر چلنا،بڑھاپے کی وجہ سے نہ سمجھنا۔اُسْتُهْتِرَ الرجُلُ: بہت لغو بیکار کام کرنا ۔۔۔ الرجُلُ بكذا: کا فریفتہ ہونا،صرف اسی کی بات کرنا۔بالشيءِ: کی پروانہ کرنا۔(عام زبان میں) الهَاتِر جمع هَاتِرون و هَتَرَة: فا۔الهِتْر جمع أَهْتَار: جھوٹ،مصیبت، عجیب بات،ناکارہ گفتگو،غلط بات۔کہا جاتا ہے: فلانٌ هِتْرُ أَهْتَار: فلاں شخص لائق ملامت کاموں اور عیاری سے متصف ہے۔الهُتْر بڑھاپے،بیماری یا غم سے عقل کا جاتا رہنا۔التَهَاتِر: ایک دوسرے کی تکذیب کرنے والی شہادتیں۔التَهْتَار و التِهِتَّر: حماقت،جہالت۔المُهْتَر: کسی بات کے کہنے پر فریفتہ،بڑھاپے،بیماری یا غم کی وجہ سے خراب عقل والا۔رجُلٌ مُهْتَر: گفتگو میں غلطی کرنے والا۔ المُسْتَهْتَر: بہت باطل اور لغو کاموں کا مرتکب ۔۔۔ بالشيءِ: کسی شے کا بہت ہی دلدادہ۔

۲۔الهِتْر جمع أَهْتَار: رات کا پہلا نصف۔

۳۔الهُتَرْك (ح): شیر،سخت کٹھن زمانہ۔

⊙ هَتَرَ - هَتْرًا ہ: کو ریزہ ریزہ کرنا۔هَاتَرَ: کو گالیاں دینا،کی توہین کرنا۔أُهْتِرَ و اُهْتِرَ: بوڑھے کا کمزور عقل والا ہو جانا،بچوں جیسا ہو جانا۔تَهَاتَرَ: ایک دوسرے کو گالیاں دینا،ایک دوسرے کو الزام دینا،متہم کرنا (شہادتوں کا) متضاد ہونا۔اِسْتَهْتَرَ: لاپرواہ ہونا، غافل ہونا،غیر ذمہ دارانہ طور پر یا غیر محتاط طریقے سے کام کرنا ۔۔ ب: کو حقیر سمجھنا،کو کچھ سمجھتا ہی نہیں،کو کوئی اہمیت نہ دینا،کی سب کی کرنا،کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا،کو حقیر جاننا،پر طنز کرنا،چوٹ کرنا،کی ہنسی اڑانا،کو چڑانا، کا مضحکہ اڑانا،ہنسی اڑانا،کو چھیڑنا،کا مذاق اڑانا،پر ٹھٹھا کرنا،سے تمسخر کرنا۔اُسْتُهْتِرَ ب: پر فریفتہ ہونا،کا والہ و شیدا ہونا،کی محبت میں اندھا ہونا،کے معاملہ میں بے عقل و بے شعور ہونا،کا شیدا ہونا۔هِتْر جمع أَهْتَار: احمقانہ باتیں،بکواس،بچگانہ گفتگو،جھوٹ،دروغ، کذب۔هُتْر: کمزور دماغی،سٹھیا پن۔مُهَاتَرَة: گالی، بد زبانی،دشنام،سرزنش،لعنت،ملامت،توہین،جمع مُهَاتَرَات: حجت،تکرار،جھڑپ،نوک جھونک،جھگڑا، ٹنٹا۔تَهَاتُر: مماثل شہادت کو سامنے لانا۔اِسْتِهْتَار: من چلا پن،بے احتیاطی،لاپرواہی،بے پرواہی،بے فکری،رندی،آوارگی،بدکاری،بے لگامی،اخلاقی قیود سے آزادی،عیاشی،اوباشی،اہانت،حقارت،تحقیر، نفرت،بے زاری،استہزاء۔مُهْتَر: بچوں کی طرح یا سٹھیا ہوئے لوگوں کی طرح باتیں کرنے والا،بہکی بہکی باتیں کرنے والا،ہذیاں بکنے والا،بے سود کام کرنے والا،بچوں جیسا بوڑھا۔مُسْتَهْتِر: لاپروا،بے پرواہ، بے فکر،بے احتیاط،عاقبت نااندیش،غیر ذمہ دار،بے روک،بے لگام،بے ڈھنگا،مخمور،عیاش اوباش،چنچل،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شوخ، بے قابو، آزادانہ کسی پابندی کے بغیر۔ مُسْتَهْتَر بـ کا اندھا دھند جاںنثار، پراندھوں کی طرح فدا، پر فریفتہ کی محبت میں اندھا، کا والہ وشیدا، پرلٹو، پر جان دینے والا۔

هتش: هَتَشَ -هَتْشًا الكلبَ: کتے کو بھڑکانا۔ کہا جاتا ہے: هُتِشَ الكلب فَاحْتَتَشَ: کتے کو بھڑکا گیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ (یہ لفظ کتے اور درندوں سے خاص ہے)۔

هتع: هَتَعَ -هُتُعًا الى قومه: جلدی سے اپنے لوگوں کے پاس آنا۔

هتف: هَتَفَ -هَتْفًا و هتافات الحمامةُ: کبوتری کا رونا۔ — فلانٌ بفلانٍ: کو چلا کر بلانا، کی تعریف کرنا۔ هَتَفَ تَهْتِيفًا تِ الحمامةُ: کبوتری کا نوحہ کرنا۔ الهَاتِف (فا): غیب سے آواز دینے والا۔ کہا جاتا ہے: سمعتُ هاتفا بهتف: میں نے آواز سنی مگر کسی کو نہ دیکھا یعنی مجھے بولنے والا نظر نہ آیا۔ اسی لفظ سے جدید مصنفوں نے ٹیلیفون کیلئے ھاتف کا لفظ اخذ کیا ہے۔ الهَتْف و الهُتَاف (مصدر): کرخت و بلند آواز۔ کہا جاتا ہے: قوسٌ هَتَّافَة و هَتَفَى: آواز دینے والی کمان۔ قوسٌ هتوفٌ: آواز دینے والی کمان۔ حمامة هَتُوف: بہت کوکو کرنے والی کبوتری۔ ريحٌ هَتُوف: سائیں سائیں کرنے والی ہوا۔ سحابة هَتُوف: گرجنے والا بادل۔ اسم: الهَتَفَى۔

○ هَتَفَ -هُتَافًا: چلانا، خوش ہونا، خوشی سے چلانا۔ هتف ل/ب: کو خوش آمدید کہنا، کیلئے خیر مقدم کے نعرے لگانا، کی دلداری کرنا، کا دل بہلانا، کا جی خوش کرنا، کے لئے شاباش کے نعرے لگانا، کو بآواز تحسین و آفرین کہنا۔ — ضِدَّ: کے خلاف ناپسندیدگی کے نعرے بلند کرنا، پر فقرے کسنا، کا مذاق اڑانا، پر پھبتی کہنا۔ — ب: کی بہت تعریف کرنا، کی ستائش کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا۔ — به: کو پکار کر کہنا۔ هتف به هاتف: ایک آواز نے اسے پکار کر کہا، ایک غیر مرئی طاقت نے اُسے بتایا، کچھ کرنے کے لئے کہا۔ هتف بحياته: کیلئے شاباش کے نعرے لگانا۔ هتف ثلاثًا ل: کے لئے تین نعرہ ہائے تحسین لگانا۔ تهَاتَف على: کچھ کرنے کے لئے ایک دوسرے کی ہمت بڑھانا۔ هَتْفَة: چیخ، زور کی پکار، بلند آواز، پکار، کوک، نعرہ مسرت۔ هُتَاف جمع هُتَافات: چیخ، زور کی آواز، بلند آواز، پکار۔ نعرہ مسرت، خوشی کی چیخ پکار، آہا، شاباش، پرجوش تائید، ببانگ بلند تائید، نعرہ تحسین، تالیاں، واہ واہ، بآواز تحسین و آفرین۔ — ل: کے لئے نعرہ تحسین۔ هُتَافُ الحرب: نعرہ جنگ۔ عاصِفَةٌ من الهُتَاف: تحسین و آفرین کا طوفان، گرجدار یا کڑک دار تحسین و آفرین۔ هاتِف: چیخنے والا، چلانے والا، بلند آواز سے بلانے والا، غیبی بلانے والا، آواز جمع هَوَاتِف: ٹیلیفون، لاؤڈ سپیکر۔ هَوَاتِف: چیخیں، پکاریں، صدائیں، آوازیں، نعرہ ہائے مسرت۔ هَاتِف القلب: اندرونی، باطنی، مخفی یا پوشیدہ آواز۔ بالهَاتِف: بذریعہ ٹیلیفون۔ هَاتِفي: ٹیلیفون کا، ٹیلیفون کے متعلق، ٹیلیفون پر۔

هتك: هَتَكَ -هَتْكًا السترَ و نحوهُ: پردہ وغیرہ پھاڑنا، پردہ وغیرہ کو کھینچ کر اس کی جگہ سے جدا کر دینا، کا کچھ حصہ پھاڑ کر شگاف کر دینا۔ — الثوبَ: کپڑے کو لمبائی میں پھاڑنا۔ هَتَكَ اللّٰهُ سترَ الفاجرِ: اللہ تعالیٰ بدکار کو رسوا اور ذلیل کرے۔ هُتِكَ عرشُهُ: اس کا دبدبہ جاتا رہا، اس کی طاقت ختم ہوگئی۔ هَتَّكَ السترَ: پردہ کو بری طرح پھاڑ ڈالنا۔ تَهَتَّكَ السترُ و نحوهُ: پردہ وغیرہ کا پھٹ جانا۔ — فلانٌ: رسوا ہونا، ذلیل ہونا۔ — في البطالة: بیکاری میں اپنے آپ کو فراموش کر دینا۔ اِنْهَتَكَ السترُ و نحوهُ: پردہ وغیرہ کا پھٹنا۔ الهُتْك: نصف شب۔ ثوبٌ هَتِكٌ: پھٹا ہوا کپڑا۔ الهُتْكَة: پردہ کا پھٹنا، رات کا ایک پہر۔ الهَتِيكَة: رسوائی، فضیحت، سکینڈل۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ مُتَهَتِّكٌ و مُسْتَهْتِكٌ و مُنْهَتِكٌ: بے شرم، بدچلن آدمی۔

○ هَتَكَ -هَتْكًا ه: پردہ وغیرہ پھاڑ کر جدا کرنا، کو بے نقاب کرنا، افشا کرنا، ظاہر کرنا، منظر عام پر لانا، ظاہر کرنا۔ — ها: عورت کو بے آبرو کرنا، عورت کی عصمت دری کرنا۔ هَتَكَ عِرضَهُ: کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا۔ هَتَّكَ ه: کی دھجیاں اڑانا، کو پارہ پارہ کرنا، پرزہ پرزہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَهَتَّكَ: پھٹ جانا، بے شرم ہونا، رسوا ہونا، ذلیل ہونا، بے آبرو ہونا، بے عزت ہونا۔ — في: کسی شرمناک یا موجب رسوائی کام میں منہمک ہونا۔ اِهْتَتَكَ: پھٹنا، بے نقاب ہونا، بے عزت ہونا، ذلیل و رسوا ہونا۔ هُتْكَة: رسوائی، ذلت، تنزل، ہتک، بے قدری، خفت، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، بے آبرو کرنا، رسوا کرنا، بے عزتی کرنا۔ هَتْكُ الاستار: انکشاف، بے نقابی۔ هَتِيكَة: بے عزتی، بے وقری، بے قدری، بری بات، شرم کی بات، خفت، ذلت، رسوائی، بے غیرتی۔ تهتك: بے شرمی، بدفعلی، فسق و فجور، بدکرداری، ڈھٹائی، بے تمیزی، بے ادبی، گستاخی، شوخی۔ مُتَهَتِّك: گستاخ، شوخ، بے ادب، سرکش، بدتہذیب، بے شرم، بے حیا، ذلیل، بے آبرو، بے عزت۔ مُسْتَهْتِك: گستاخ، شوخ، بے ادب، سرکش، بدتہذیب، بے شرم، بے حیا، ذلیل، بے آبرو، بے عزت۔

هتل: ۱۔ هَتَلَ -هَتْلًا وهُتُولًا و تَهْتَالًا و هَتَلَانًا ت السماءُ: آسمان کا لگاتار برسنا۔ سَحَائِبُ هُتَّلٌ: لگاتار برسنے والے بادل۔ الهَتَلَانُ: ہلکی لگاتار بارش۔

۲۔ هَتْلَمَ هَتْلَمَةً الرجُلان: پوشیدہ اور خفیہ بات کرنا۔ الهَتْلَمَة (مص): پوشیدہ اور خفیہ بات۔

هتم: ۱۔ هَتَمَ -هَتْمًا فاهُ: کے اگلے دانت توڑنا۔ — الثَنِيَّةَ: اگلا دانت جڑ سے توڑنا۔ هَتِمَ -هَتَمًا: اگلے دانت ٹوٹے ہوئے والا ہونا۔ صفت: أَهْتَم م هَتْماء جمع هُتْم۔ هَتَّمَ هُ بالضرب: کو مار کر کمزور کرنا۔ أَهْتَمَ هُ: کے دانت توڑنا۔ تَهَتَّمَ الشيءُ: چیز کا ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے: تَهَتَّمَتْ اسنانُهُ: کے دانت ٹوٹنا۔ تَهَاتَما: بمعنی تَهَاتَرَ۔ الهُتَامَة: ٹکڑا، ٹوٹی ہوئی چیز۔

۲۔ هَتْمَرَ الرجُلُ: بہت بولنا۔

۳۔ هَتْمَلَ الرجُلُ: آہستہ بولنا۔ — الرجُلان: خفیہ اور پوشیدہ بات کرنا۔ الهَتْمَلَة (مص) جمع هَتَامِل: خفیہ اور پوشیدہ بات۔ المُهَتْمِل: چغل خور۔

○ هُتَامَة: ٹوٹ کر الگ ہونے والی چیز، ٹکڑا، شکست و ریخت ٹوٹ پھوٹ۔ أَهْتَم مونث هَتْماء جمع هُتْم: جس کے اگلے دانت نہ ہوں، پوپلا۔

هَتَن: هَتَنَ -هَتْنًا و هُتُونًا و هَتَنَانًا و تَهْتَانًا و تَهَاتَنَ تِ السماءُ: آسمان سے لگاتار بارش برسنا۔ — الدمعُ: آنسو ٹپکنا۔ سَحَابٌ هَاتِنٌ جمع هُتُنٌ و هُتَّنٌ: لگاتار برسنے والا بادل۔ الهَتَنَ: لگاتار برسنے والی بارش، لگاتار بارش۔ سحابٌ هَتُونٌ جمع هُتُنٌ و هُتْنٌ: لگاتار بارش۔ عينٌ هَتُونُ الدمع: آنسو بہانے والی آنکھ۔ التَهْتَان: مسلسل بارش جس میں کڑک چمک نہ ہو۔

○ هَتُون: بارش سے بھرا ہوا یا بھاری (بادل)۔

هتو: هَتَا يَهْتُو هَتْوًا هُ: کو پاؤں سے روند کر توڑنا۔ هَاتِي مُهَاتَاةً هُ: کو دینا۔ کہا جاتا ہے: هاتِ يا رجُلُ: اے آدمی دے۔ هَاتِي يا اِمرأةُ: اے عورت دے۔ ما أُهَاتِيكَ: میں تمہیں نہیں دوں گا۔

هت: هَتَّ -هَتًّا: جھوٹ بولنا۔ صفت: هَتَّات (یعنی جھوٹا)۔

۲۔ هَتْهَتَ هَتْهَتَةً الشيءُ: چیز کا مخلوط ہونا۔ — الوالي الناسَ: والی کا لوگوں پر ظلم کرنا۔ — الشيءَ: کو تحت

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

روندنا۔ ـــ ت السحابةُ بقطرها: بادل کا موسلا دھار بارش برسانا۔ الہَثْهَثَة (مص) جنگ یا شور میں مخلوط آوازیں۔ الہثہات تیز چلنے والا انسان یا جانور۔ شیءٌ هَثْهَاثٌ مخلوط چیز، گڑبڑ اور بے ترتیب شئے۔ رجلٌ هَثْهاث جھوٹا آدمی۔

هثم: هَثَمَ ـ هَثْمًا دُ: کو باریک پیسنا۔ ـ له من مالِه: کو مال میں بیعانہ دینا۔ الہَیْثَم (ن): کھٹے ذائقہ کا درخت۔ (ح) باز، شکرا یا گدھ یا عقاب کا بچہ، سرخ ریت کا ٹیلہ۔

هثی: هَثَى يَهْثِي هَثَيَانًا الترابَ: مٹی ڈالنا، پھینکنا۔ هَاثَى مُهَاثَاةً دُ: سے مزاح کرنا، سے محبت کرنا۔

هج: ا۔هَجَّ هَجًّا و هَجَّجَ البيتَ گھر کو مسمار کرنا۔ ـــ هججت العينُ آنکھ کا دھنسا۔ هَجَّجَت عينُهُ کی آنکھ کا دھنسا۔ اِهْتَجَّ في الامر کسی کام کو کرتے رہنا اور کسی کے مشورہ پر کان نہ دھرنا۔ اِسْتَهْجَ فلانٌ اپنی رائے پر چلنا۔ ـــ السيّارةَ او القافلةَ: چلنے والوں یا قافلہ کو جلد روانہ کرنا۔ عینٌ هَاجَّةٌ: دھنسی ہوئی آنکھ۔ الہَجَاج: تیز چال۔ کہا جاتا ہے: رَكِبَ هَجَاجِ: اس نے خود رائی سے کام لیا۔ هَجَاجَيْكَ و هَذا ذَيْكَ باز آؤ۔ الہَجَاجَة: احمق۔ (رجلٌ هَجَاجَةٌ احمق آدمی)۔ ہر جگہ پھیلنے والا غبار۔ الہَجِيج (مص) جمع هُجَّان: گہری وادی، طویل مسافت والی زمین، زمین پر کھینچی ہوئی کہانت کی لکیریں۔ الاِهْجِيج: گہری وادی۔ المُهَجِّج فا: دھنسی ہوئی آنکھوں والا۔ عینٌ مُهَجَّجَة: دھنسی ہوئی آنکھ۔ المُسْتَهِجّ: حق و باطل ہر ایک پر بولنے والا۔

۲۔هَجَّ ـ هَجِيجًا تِ النارُ آگ کا زور سے بھڑکنا۔ هَجَّجَ النارَ آگ کو زور سے بھڑکانا۔ الهُجَج: بو کھرے۔

۳۔الہُجّ: بیل کی گردن کا جوا۔

۴۔هَجْهَجَ الفحلُ في هديره: سانڈ کا سخت آواز نکالنا۔ ـ الرجلَ: کو کسی چیز سے منع کرنا۔ الجملَ او بالجملِ: اونٹ کو ہیج ہیج کہہ کر ڈانٹنا اور روکنا۔ الہَجْهَاج: احمق، بہت شریر، کم عقل، بہت بلبلانے والا اونٹ، دراز قد آدمی اور اونٹ، مصیبت، بوڑھا۔ یومٌ هَجْهَاج: سخت آندھی والا دن۔ الہَجْهاجة جمع هَجَاهِج: بمعنی هجهاج۔ بنجر زمین۔ ماءٌ هُجَاهِجٌ: نہ میٹھا نہ کھاری پانی۔

○ هَجَّ ـ هَجِيجًا: جلنا، بھڑکنا، شعلے نکلنا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا۔ هَجَّجَ ہ: کو آگ لگانا، شعلہ فشاں کرنا، بھڑکانا، میں کوئلہ ڈالنا۔

هجا: هَجَأَ يَهْجَأُ هَجْأً و هُجُوءًا جوعُهُ: کی بھوک کا ختم ہونا، جاتی رہنا۔ ـــ هَجْأُ الطعامَ: کھانا کھانا۔ بطنَهُ: اپنے پیٹ کو بھرنا۔ ـ هُ الطعامُ: کھانے کا کسی کا پیٹ بھرنا۔ هَجِيَ يَهْجَأُ هَجَأً: کی بھوک بھڑکنا۔ أَهْجَأَ إِهْجَاءً جوعَهُ: کی بھوک دور کرنا۔ ـ فُلانًا الشيءَ: کو چیز کھلانا۔ ـ فُلانًا حَقَّهُ: کا حق ادا کرنا۔ الہَجَأ (مص): کسی چیز کا منقطع ہونا۔ الہُجَأَة: بیوقوف مرد یا عورت۔

۲۔تَهَجَّأَ الحرفَ: حرف کی ہجے کرنا۔

○ هَجَأَ ـ هَجْأً و هُجُوءً بھوک کا رفع ہونا۔ أَهْجَأَ جُوعَهُ: کی بھوک رفع کرنا۔

هجد: هَجَدَ ـ هُجُودًا: رات کو سونا، جاگنا، (ضد)۔ کہا گیا ہے کہ ہجود دن کو سونا اور ہجوع رات کو سونا ہے۔ هَجَّدَ تَهْجِيدًا الرجلُ: نیند سے جاگنا، رات کو سونا، رات کو (جاگ کر) نماز پڑھنا۔ ـــ فلانًا: کو جگانا، کو سلانا (ضد)۔ أَهْجَدَ الرجلُ: سونا۔ ـــ فُلانًا: کو سلانا، کو سویا ہوا پانا۔ تَهَجَّدَ الرجلُ: رات کو سونا، جاگنا (ضد)۔ الہَاجِد جمع هُجُود و هُجَّدٌ: سویا ہوا۔ رات کو نماز پڑھنے والا۔ الہَجُود جمع هُجُود و هُجَّد: رات کو نماز پڑھنے والا۔ التَهَجُّد (مص): رات کی نماز۔ المُتَهَجِّد (فا): رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا، رات کو نماز پڑھنے کے لئے نیند سے جاگنے والا۔

○ هَجَدَ ـ هُجُودًا و تَهَجَّدَ: رات کو جاگتے رہنا، شب بیداری کرنا، رات نماز میں گزارنا۔

هجر: ا۔هَجَرَ ـ هَجْرًا و هِجْرانًا دُ: سے قطع تعلق کرنا ـــ الشيءَ: کو چھوڑنا ـــ زوجَهُ: بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا لیکن اُسے طلاق نہ دینا ـــ هَجْرًا وهِجِّيرَى و اِهْجِيرَى في نومه أو مرضه: نیند یا بیماری میں بکواس کرنا، بڑ انا ـــ هَجْرًا بـه في النوم: کا نیند میں خواب دیکھنا۔ هَجَّرَ القومُ: لوگوں کا دوپہر کو سفر کرنا ـــ النهارُ: دن کی گرمی کا تیز ہونا۔ هَاجَرَ مُهَاجَرَةً من البلد و عنه: ملک یا شہر سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں چلے جانا، ہجرت کرنا۔ أَهْجَرَ إِهْجَارًا هُ: کو چھوڑ دینا ـــ القومُ: لوگوں کا دوپہر کو سفر کرنا ـــ في منطقه: بکواس کرنا، ہذیان بکنا ـــ بفلان: سے ٹھٹھا کرنا یا نامناسب گفتگو کرنا۔ تَهَجَّرَ فلانٌ: مہاجرین کے مشابہ ہونا ـــ القومُ: دوپہر کو سفر کرنا۔ تَهَاجَرَ القومُ: آپس کا تعلق توڑنا۔ اِهْتَجَرَ القومُ: آپس کا تعلق توڑنا ـــ ہُ: سے قطع تعلق کرنا۔ الہَاجِر (فا): شيءٌ هَاجِرٌ: نہایت عمدہ، دوسری چیزوں سے برتر۔ الہَاجِرَة: جمع هَاجِرات و هَوَاجِر: ہاجر کا مؤنث۔ موسم گرما میں دوپہر کا وقت یا سورج ڈھلنے سے عصر تک کا وقت، گرمی کی شدت۔ (کہا جاتا ہے: رَمَاهُ بِهَاجِرَاتٍ: اس نے اُسے شرمناک اور رسوا کن افعال سے متہم کیا۔) ناقة هاجرة: برتر اونٹنی۔ الہَاجِری: شہری، نہایت فائق، بہت عمدہ۔ الہَجْر (مص): قابل حفاظت چیز کو چھوڑنا، دوپہر، گرمی کی شدت، بہت عمدہ۔ کہا جاتا ہے: لقيتُه عن هَجْرٍ: میں اس سے ایک سال یا چھ دن یا اس سے زائد دنوں بعد ملا، یا غائب رہنے کے بعد ملا۔ ذهبت الشجرةُ هَجْرًا: درخت نے شاخیں نکالیں اور پھیلا۔ الہُجْر: اہجار کا اسم، نامناسب کلام، بدگوئی۔ الہِجْر: عمدہ اونٹ یا اونٹنی۔ الہَجِر: نہایت عمدہ۔ برتر۔ الہَجْرَة: ہجر کا اسم مرّة۔ الہِجْرَة: ہجر کا اسم نوع، تہاجر کا اسم۔ و الہُجْرَة: ہجرت، ایک سرزمین سے نکل کر دوسری سرزمین میں جانا۔ الہَجْراء: قبیح گفتگو۔ الہِجْرُ: دیہاتوں کی طرف ہجرت، ترک وطن۔ الہُجُورِيّ: دوپہر کے وقت کا کھانا۔ الہَجِير جمع هُجُر: دوپہر، گرمی کی شدت، جما ہوا دودھ، لمبا چوڑا حوض، بڑا پیالہ۔ الہَجِيرَة: دوپہر، گرمی کی شدت۔ الہِجِّيرَى: نیند یا بیماری میں ہذیان بکنا۔ الأَهْجَر: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے هذا أَهجر من ذاك: یہ اس سے زیادہ لمبا، ضخیم یا بڑا ہے۔ المُهْجِر: شریف، خوبصورت، ہر عمدہ چیز، دوسری چیز سے فائق و برتر۔ المَهَاجِر واحد مَهْجَر: ہجرت کی جگہیں۔ کہا جاتا ہے تَكَلَّم بالمهَاجِر: اس نے فحش کلامی کی۔ رَمَاهُ بِمُهْجِرات: اس نے اس پر رسوا کن باتوں کا الزام لگایا۔ المَهْجُور (مفع): سونے والے یا بیمار کی ہذیان، بکواس، متروک الاستعمال لفظ وغیرہ۔ کہا جاتا ہے: الغلط المشهور ولا الصحيح المهجور: مہجور غلط لفظ جو لوگوں میں مشہور ہو جائے یا غلط العام ہے۔

۲۔هَجَرَ ـ هَجْرًا و هُجُورًا البعيرَ: اونٹ کو پاؤں باندھنے کی رسی سے باندھنا۔ الہَاجِرِيّ: معمار۔ الہَجْر: مہار۔ الہَجِر: تھکاوٹ کی وجہ سے بمشکل چلنے والا۔ الہَجْرَة: بہت موٹی عورت۔ الہِجَار: اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی، تانت، طوق، تاج۔ الہَجِير جمع هُجُر: رسی سے بندھا ہوا اونٹ۔ الہِجْرِيّاء: عادت۔ الہِجِّير و الہِجِّيرَة:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عادت۔ الهِجّيرى: عادت۔ کہا جاتا ہے۔ هذا
هِجّيراهُ: یہ اس کی عادت ہے۔ الأُهْجُورة
و الإهْجيرى و الإهْجيراء: عادت۔
۳۔ هَجّر الى الشيء: کو صبح سویرے کرنا، کو جلدی سے کر
ڈالنا۔ تهاجَرَ القوم الماءَ: لوگوں کا پانی لینا۔
۴۔ الهَجْراء: کفایت۔ کہا جاتا ہے ما عنده غناءُ ذلك
و لا هِجراؤُه: اس کے پاس اتنا نہیں جو کافی ہو۔
الهَجِير: کوفہ اور بصرہ کے درمیان کا علاقہ۔ — جمع
هُجُر: موٹا گورخر۔ عددٌ مُهْجِر: بہت، وافر۔
۵۔ الهِجْرِس جمع هجارس (ح): بندر، لومڑ، یا لومڑی
کا بچہ۔ (ح) ریچھ، کمینہ۔ الهَجارس: زمانہ کی
سختیاں۔
۶۔ الهِجْرع و الهِجْرَع: پاگل احمق، لمبا لنگڑا (ح) ہلکا
پھلکا شکاری کتا۔
○ هجَر ـ هَجْراً و هِجراناً: ترک وطن کر کے
دوسرے دیس میں جا بسنا۔ — ہ/ہ: سے قطع تعلق کرنا،
سے علیحدہ ہونا، جدا ہونا، سے دور رہنا، الگ ہونا، کی
رکنیت چھوڑنا — ہ: سے جدا ہونا۔ — ہ: کو چھوڑنا،
ترک کرنا، سے دست کش ہونا، دست بردار ہونا، کے
بغیر گزارہ کرنا، کو اپنا ماننے سے انکار کر دینا، سے
پہلو تہی کرنا، بچنا، کنی کتانا، احتراز یا گریز کرنا — ہ
للی: کو کے سپرد کرنا، کیلئے پیچھے چھوڑنا، کو کے لئے چھوڑنا،
کو کے حق میں خالی کرنا، چھوڑنا۔ هَجَّر ہ: کو ترک
وطن پر اکسانا۔ هاجر: ترک وطن کر کے دوسرے
دیس میں جا بسنا۔ أهْجَر ہ: کو چھوڑنا، ترک کرنا۔ —:
بیہودہ بات کرنا، بے وقوفی کی باتیں کرنا۔ تهاجَرَ:
ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا۔ هَجْر:
ترک، دست کشی، دست برداری، بے تعلقی، علیحدگی،
جدائی، احتراز، پہلو تہی، کنی کترانا، اجتناب، پرہیز،
بچتے رہنا، محبوب سے علیحدگی، مفارقت، دن کا گرم
ترین وقت۔ هُجْر: فحش زبان، خلاف تہذیب زبان۔
هِجْرة: رخصت، روانگی، رحلت، کنارہ کشی، گریز،
کوچ، ترک وطن، ہجرت، خروج۔ الهِجْرة: رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ۶۲۲ء میں مدینہ میں
ہجرت۔ دار الهجرة: مدینہ منورہ۔ هِجْری: ہجرت
کا، رسول اللہ ﷺ کے ترک وطن کے متعلق۔ سنة
هِجْرِيّة: سن ہجری، مسلمانوں نے تاریخی دور کے
آغاز کا سال، جو نبی کریم ﷺ کے ترک وطن سے
شروع ہوا۔ هُجْرة و هِجْرة جمع هُجَر و هِجَر:
نجد میں وہابی اخوان کی زرعی نو آبادی۔ هُجْراء: فحش
زبان۔ هَجِير: دوپہر کی گرمی۔ هَجِيرة: دوپہر کی
گرمی، نصف النہار، دوپہر۔ مُهَجَّر جمع مهاجر:
ترک وطن کی جگہ، جائے پناہ، ترک وطن، نو آبادی۔
مَهاجر: مغلظات، فحاشی، بے حیائی، (بازاریت)
مُهاجَرة: ترک وطن۔ هاجرة جمع هواجر: دوپہر
کی گرمی، دوپہر، وسط النہار۔ جمع هاجرات و هواجر:
فحش زبان، فحاشی، مغلظات، بازاریت۔ هاجِرى:
دوپہر کی یا کا، عمدہ، اعلیٰ، ممتاز۔ مَهْجُور: ترک کیا
ہوا، چھوڑا ہوا، فراموش کیا ہوا، منہ موڑا ہوا، بے مونس و
غمخوار، بے یار و مددگار، تنہا، اکیلا، اداس، گوشہ نشین،
ملول، سنسان، متروک الاستعمال، منسوخ، فرسودہ،
دقیانوسی، متروک قرار دیا ہوا، پرانا قرار دیا ہوا، قدیم،
پرانا۔ مُهاجر: ترک وطن کرنے والا، ہجرت کرنے
والا۔ المُهاجرون: مکہ کے لوگ جنہوں نے اسلام
کے آغاز میں مدینہ منورہ ہجرت کی۔

هجز: هاجَزَ مُهاجَزَةً ہ: سے کانا پھوسی کرنا۔

هجس: ۱۔ هَجَس ـ هَجْساً الشيءُ في صدره: کے
دل میں اچانک خیال آنا۔ هاجَسَ ہ: سے چپکے چپکے
بات کرنا۔ الهاجس (فا) جمع هواجس: اندیشہ،
وسوسہ۔ الهَجْس (مص): ہلکی آواز جو سنی جائے مگر
سمجھ میں نہ آئے، اندیشہ، وسوسہ۔ الهَجّاس (ح):
آواز کو سننے والا شیر۔ المَهْجوس (مفع): کہا جاتا
ہے وقعوا في مَهْجُوسٍ مِنَ الأمر: وہ مشکل
میں پڑ گئے۔
۲۔ هَجَس ـ هَجْساً فلاناً: کسی کو کسی کام سے روکنا۔
إنْهَجَس من الأمر: کسی امر سے باز رہنا۔
۳۔ الهَجِيسة: مشکیزہ میں بگڑا ہوا دودھ۔ خُبْزٌ
مُتَهَجِّس: بے خمیری روٹی۔
○ هَجَس ـ هَجْساً في نفسه: کے دل میں اچانک
کوئی بات آنا، کے ذہن میں آنا۔ هَجَس هَجْساً:
منہ ہی منہ میں کچھ کہنا، بڑبڑانا، آہستہ کہنا، اپنے آپ
سے باتیں کرنا۔ هَجْس: فکر خیال، احمقانہ بات۔
هَجْسة جمع هَجَسات: خیال، فکر، تصور، وہم و
گمان، خوف، اندیشہ، پریشانی، شک، بے اعتمادی،
تشویش، ضمیر کی خلش، ضمیر کی خلش کے باعث
تذبذب جمع هَجَسات: معینہ افکار، اندیشے، شکوک۔
هَجّاس: شیخی خورہ، شان دکھاتے پھرنے والا۔
هاجِس جمع هواجس: فکر خیال، تصور، خوف،
اندیشہ، پریشانی، تشویش، شک، بے اعتمادی، ضمیر کی
خلش۔ جمع هواجس: معینہ افکار، اندیشے، شکوک۔

هجش: هَجَش ـ هَجْشاً: اکسانا۔ — الدابّة: جانور کو
نرمی سے ہانکنا۔ — بین القوم: قوم میں فساد ڈالنا۔
ت لہ نفسی: (دل کا) کسی بات کا آرزو مند ہونا،
متمنی ہونا۔ الهاجِشة جمع هَواجِش: لوگوں کی
جماعت۔ کہا جاتا ہے جاءت هاجشة من الناس:
لوگوں کی ایک جماعت آئی۔ الهَجْشة: بار، مرتبہ،
اٹھنا۔
○ هَجَصَ: شرارت، تکلیف دہ (شخص، چیز کام)۔
اودھم اور شور و شغب والا کھیل۔

هجع: هَجَعَ ـ هُجُوعاً و تَهْجاعاً: رات کو سونا، سونا۔
کہا جاتا ہے هَجَع جُوعَهُ هَجْعاً فهَجَع جُوعُهُ
هُجُوعاً: اس نے اپنی بھوک کو مٹایا تو وہ مٹ گئی۔
هجعتُ اليه فخَدَعَني: میں نے مانوس او جھک کر
اس پر بھروسہ کیا تو اس نے مجھے دھوکا دیا۔ هَجَّع
تَهْجِيعاً القومَ: لوگوں کا سوجانا۔ أَهْجَع جوعَهُ:
کی بھوک مٹانا۔ الهاجع جمع هُجُوع و هُجَّع فا۔
الهاجعة جمع هُجَّع و هُجُوع و هَواجِع و جج
هَواجعات: رات کو سونے والی۔ الهِجَع و
الهَجَع و الهِجَع: غافل احمق۔ الهِجْعة: سونے کا
طریقہ۔ رجل هِجْعة: غافل اور احمق آدمی۔ الهَجْعة:
نیند۔ کہا جاتا ہے اتیتُ فلانا بعد هَجْعةٍ: میں
شروع رات میں ہلکی نیند کے بعد فلاں شخص کے پاس
گیا۔ الهُجَعة: بہت سونے والا، غافل احمق۔
الهَجِيع من الليل: رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے:
مضي هَجِيع من الليل: رات کا ایک پہر گزر را۔
التَهْجاع: ہلکی نیند۔ المِهْجَع: غافل، احمق، جلد
بھروسہ کرنے والا، ہر ایک کا مطیع۔
○ هَجَع ـ هُجُوعاً: اطمینان کی نیند سونا، خاموش ہونا یا
ہو جانا، فرو ہونا، ساکن ہونا، عام سطح پر آنا، بیٹھ جانا۔ —
هَجَّعَ ہ: بھوک مٹانا۔ أهْجَع ہ: بھوک مٹانا،
گھٹانا، دھیما کرنا، کم کرنا۔ هَجْعة: نیند، خواب۔
هُجُوع: نیند، خواب، عارضی سکون، (خطرے سے
پہلے کا) سکوت، تسکین، تسلی، ٹھہراؤ، اتار، کمی، تخفیف،
گھٹاؤ، رعایت، اترنا، گھٹنا (بخار بیماری وغیرہ کا)۔
مَهْجَع جمع مَهاجِع: کمرۂ خواب، سکونت گاہ،
اقامت گاہ، قطار در قطار حجروں میں سے ایک حجرہ یا
کمرہ۔ رئیس المَهْجَع: بیرکوں کا سارجنٹ،
اردلی۔

هجف: ۱۔ هَجَف ـ هَجَفاً: بھوکا اور ڈھیلے پیٹ والا
ہونا، کے کوکھوں کا پہلوؤں سے لگا ہوا ہونا۔ إنْهَجَف:
لاغری سے ہڈیوں کا دکھائی دینا۔ الهَجْفان: پیاسا۔
الأهْجَف م هَجْفاء: لاغر، دبلا۔
۲۔ الهِجَفّ: سخت جسم سست شتر مرغ یا آدمی، موٹا دراز قد

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آدمی، بڑے پیٹ والا۔

هجل: ۱۔ هَجَلَ ـُ هَجْلاً ت المرأةُ بعينها: آنکھ سے اشارہ کرنا، آنکھ مارنا۔ هَاجَلَ مُهَاجَلَةً: پست وہموار زمین میں چلنا۔ ـــ فُلاناً: سے مقابلہ کرنا۔ أَهْجَلَ القومُ: قوم کا ہموار زمین میں آنا۔ ـــ الإبلَ: اونٹوں کو آزاد چھوڑ دینا۔ ـــ المالَ: مال و دولت ضائع کرنا۔ الهَاجِل: سونے والا، بہت سفر کرنے والا۔ الهَجْل (مص) جمع أَهْجَال و هِجَال و هُجُول: پست ہموار زمین۔ الهَجْلَة جمع هَجَلات: پست ہموار زمین۔ الهَجُول: فاحشہ عورت۔ الهَجِيل: پست ہموار زمین، اچھی طرح نہ بنا ہوا حوض۔

۲۔ هَجَلَ ـُ هَجْلاً بالقصبة وغيرها: زرسل وغیرہ پھینکنا۔ هَجَّلَ عِرضَه: کی بے عزتی کرنا۔ ـــ بفلان: کو گندی باتیں سنانا، گالیاں دینا۔ الهَجْلَة جمع هَجَلات: هَجَلَ کا اسم مرة۔ دُمُوعٌ هُجُولٌ: بہتے آنسو واحد هاجل۔

۳۔ أَهْجَلَ الشيءَ: کو وسیع کرنا۔

۴۔ اِهْتَجَلَ الشيءَ: کو ایجاد کرنا۔

⊙ هَجَلَ ـِ هَجْلاً: عاشقانہ نظر ڈالنا، پیار کی نظروں سے دیکھنا، محبت بھری نظروں سے دیکھنا۔

هجم: هَجَمَ ـُ هُجُومًا عليه: کے پاس اچانک آجانا بغیر اجازت آجانا، اسی سے لشکروں کا ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ـــ البردُ او الشتاءُ: سردی کا اچانک شروع ہونا۔ ـــ البيتُ: گھر کا منہدم ہونا۔ ـــ هَجْمًا فلانًا على القوم: کو قوم کے سامنے اچانک لانا۔ ـــ البيتَ: گھر کو گرانا۔ ـــ الهَوَاجِرُ فلانًا: گرم دنوں کا کسی کا پسینہ بہانا۔ ـــ ما في الضرع: تھن کا سارا دودھ دوہ لینا۔ ـــ الدابّةَ: جانور کو زور سے ہانکنا۔ ـــ فلانًا: کو دھتکارنا۔ ـــ هَجْمًا و هُجُومًا ت عينُهُ: کی آنکھ کا دھنسنا۔ ـــ الشيءُ: سکون پانا۔ ـــ المرضُ: بیماری کا ہلکا ہونا۔ ـــ فلانٌ: خاموش ہونا، سر جھکانا۔ هَجَّمَهُ: کو اچانک لانا۔ هَاجَمَ مُهَاجَمَةً: اچانک ایک دوسرے پر آپڑنا، پر اچانک حملہ کرنا۔ أَهْجَمَهُ عليهم: کو ان کے پاس اچانک لانا۔ ـــ الإبلَ: اونٹ کو آرام دینا۔ ـــ اللهُ المرضَ عنه: اللہ تعالیٰ کا کسی کی بیماری کو دور کرنا۔ ـــ ما في الضرع: تھن کا سارا دودھ دوہ لینا۔ تَهَجَّمَ على الشيء: پر تکلف سے جا پڑنا۔ تَهَاجَمَ: ایک دوسرے پر اچانک آپڑنا۔ اِنْهَجَمَ البيتُ: گھر منہدم ہونا۔ ـــ الدمعُ او العرقُ: آنسو یا پسینہ کا بہنا۔ ـــ ت العينُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِهْتَجَمَ ما في الضرع: تھن کا سارا دودھ دوہ لینا۔ اِهْتَجَمَ الرجلُ: کمزور ہونا۔ الهَجْمُ (مص) جمع أهجام: بڑا پیالہ، پسینہ۔ الهَجَمُ: بڑا پیالہ۔ الهَجْمَة: هجم کا اسم مرة، رات کی ابتدائی تاریکی (کہا جاتا ہے: حنتهُ بعد هجمة من الليل: میں رات کی ابتدائی تاریکی پھیلنے کے بعد اُس کے پاس گیا) بوڑھی بھیڑ۔ ـــ من الشتاء: سخت سردی۔ ـــ من الصيف: سخت گرمی۔ ـــ من الإبل: چالیس یا ستر سے لے کر سو تک اونٹوں کا گلہ۔ الهَجَّام: قوم پر بہت ہجوم کرنے والا، بہادر (ح): شیر۔ الهَجُوم: تیز کودنے والا، پسینہ آور۔ کہا جاتا ہے: استحمَّ فإنّ الحمّام هَجُوم: اس نے غسل کیا کیونکہ غسل عرق آور ہے)۔ ـــ من الرياح: تیز ہوا۔ الهَجِيمَة: گاڑھا دودھ۔ الهَيْجُمَانَة: موتی۔ (ح): زرکری۔ الإهْتِجَام: آخر شب۔ المَهْجُوم: گرا ہوا گھر۔ بيت مَهْجُومٌ: خیمہ جس کی طنابیں کھول دی جائیں۔

⊙ هَجَمَ ـُ هُجُومًا على: کی طرف جانا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا، پر حملہ کرنا، ہلہ کرنا، پر دھاوا بولنا، پر چھاپا مارنا، کو اچانک لینا، کو اچانک حملہ میں قابو کرنا، فتح کرنا، میں دھم سے کودنا، درانہ گھس آنا، میں بلا اجازت داخل ہونا، زبردستی گھسنا، کے سر پر زبردستی جا مسلط ہونا، میں مداخلت بیجا کرنا، پر چڑھائی کرنا، پر چڑھ دوڑنا، پر حملہ آور ہونا۔ هَجَمَ ـُ هُجُومًا: خاموش رہنا۔ هَجَّمَهُ: سے حملہ کرانا، کو حملہ کرنے کا حکم دینا۔ هَاجَمَهُ/ه: پر حملہ کرنا، دھاوا بولنا۔ ـــ ه: پر حملہ شروع کرنا، کی طرف جانا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا، پر حملہ آور ہونا، حملہ یا ہلہ کرنا، دھاوا بولنا، پر ٹوٹ پڑنا، میں دھم سے کودنا، میں درانہ گھس آنا، پر حملہ آور ہونا، میں مداخلت بے جا کرنا، میں مجرمانہ مداخلت کرنا، میں بلا اجازت داخل ہونا۔ أَهْجَمَ بمعنی هَجَّمَ۔ تَهَجَّمَ على: پر ٹوٹ پڑنا۔ تَهَاجَمَ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِنْهَجَمَ: (مکان وغیرہ کا) گر پڑنا، کمزور صحت والا ہونا، اخلاقی کمزوری والا ہونا، (عورت کا) بے عصمت ہونا، (آنسوؤں کا) بہنا، (آنکھ کا) آنسو بہانا۔ هَجْمَة جمع هَجَمات: حملہ، ہلہ، دھاوا، سخت حملہ، چھاپہ، اچانک حملہ، بھرپور وار، سردی کی شدت۔ هَجْمَة مُعَاكِسَة: جوابی حملہ۔ هَجُومِي: جارحانہ، شدید، سخت، انتہائی شرمناک، سخت ظالمانہ، دل ہلا دینے والا، اخلاق سوز، توہین آمیز، حد سے بڑھا ہوا، وحشیانہ، بہیمانہ، ظالمانہ، سفاکانہ۔ [illegible] حملہ، ہلہ، دھاوا، سخت حملہ، چھاپہ، اچانک حملہ، (بیماری کا) حملہ یا اچانک غلبہ یا دورہ، مجاز آگے کھیلنے والے۔ هُجُومٌ جانبيٌّ: میمنہ یا میسرہ پر حملہ (flank attack)۔ هجومٌ جَوِّيٌّ: ہوائی حملہ۔ هجومٌ مُضَادٌ یا هجومٌ مُعَاكِس: جوابی حملہ۔ خطُّ الهجوم: اگلی صف۔ قلبُ الهجوم: سنٹر فارورڈ (centre forward)۔ هُجُومي: جارحانہ، جارحیت پرمبنی۔ مُهَاجَمَة: حملہ، دھاوا، ہلہ، چھاپہ، اچانک حملہ، سخت حملہ، پولیس کا ریڈ (چھاپہ)۔ تَهَجُّم جمع تَهَجُّمات: حملہ، دھاوا، ہلہ، چھاپہ، اچانک حملہ۔ مُهَاجِم: حملہ آور، جارح، آگے کھیلنے والا (فٹ بال وغیرہ میں)۔

هجن: ۱۔ هَجُنَ ـُ هُجْنَةً و هَجَانَةً و هُجُونَةً: کمینہ ہونا۔ ـــ الكلامُ: غلط ہونا۔ هَجَّنَ تَهْجِينًا هُ: کو عیب دار بنانا۔ ـــ الأمرَ: کو برا بنانا، عیب دار بنانا۔ اِسْتَهْجَنَ فعلَهُ: کے فعل کو برا جاننا، قابل نفرت جاننا۔ کہا جاتا ہے: هذا مما يُسْتَهْجَنُ ذِكْرُهُ: یہ ایسا فعل ہے جس کا ذکر بھی قابل نفرت ہے۔ الهَاجِن (فا) جمع هَوَاجِن: پہلی ضرب پر آگ نہ دینے والی چقماق۔ الهُجْنَة (مص) جمع هُجَن من الكلام: نقص، برائی، غلط کلام۔ ـــ في العلم: تضیع علم، عام لوگ هُجْنَة برتر چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں جسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ الهَجِين جمع هُجُنٌ و هُجَنَاء و هُجْنَانٌ و مَهَاجِينُ و مَهَاجِنَةٌ مونث هَجِينَة جمع هُجُن و هِجَان و هَجَائِن: کمینہ، لئیم، جس کا باپ عرب اور ماں لونڈی ہو۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ و برذونةٌ هجينٌ: خراب نسل کا گھوڑا یا ٹٹو۔ ـــ جمع هُجُن و هَوَاجِن من الخيل: وہ گھوڑا جو ترکی گھوڑی اور عربی گھوڑے سے پیدا ہو۔ لَبَنٌ هَجِين: ملاوٹ والا دودھ۔ المَهْجَنَة و المَهْجَنِيّ و المَهْجُنى و المَهْجُناء: ناکارہ لوگ۔ بے خیر لوگ۔

۲۔ هَجَنَ ـَ هَجْنًا: ہاجن ہونا۔ أَهْجَنَ الرجلُ: اچھی نسل کے اونٹوں والا ہونا۔ ـــ الجاريةَ: بلوغت سے پہلے لڑکی کی شادی کرنا۔ أُهْجِنَت الشاةُ: بکری کا حمل ظاہر ہونا۔ الهَاجِن جمع هَوَاجِن: وہ بچی جس کی شادی بلوغت سے پہلے ہو جائے، وہ کھجور کا درخت جو چھوٹا ہونے پر بھی پھل دے۔ الهَاجِنَة: هاجن کا مونث۔ کھجور کا درخت جو چھوٹا ہونے پر پھل دے رہا ہو۔ الهِجَانُ من كل شيء: ہر عمدہ وخالص شے۔ ـــ من الإبل: سفید نسل کا اچھا اونٹ (مذکر، مونث جمع سب کے لئے یکساں)۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: بعيرٌ هجان و ناقةٌ هِجانٌ و ابلٌ هجانٌ: کبھی

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
marfat.com
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جمع کی صورت میں ہجائن بھی کہا جاتا ہے۔رجُلٌ هِجانٌ: خاندانی مرد۔امراۃٌ هِجانٌ: خاندانی عورت۔نسوۃٌ هجائن: خاندانی عورتیں۔ارضٌ هِجانٌ: نرم مٹی کی سفید زمین۔الهجانة: حسب، شرافت، سفیدی۔علمۃٌ اُهَیجنۃٌ: بلوغ سے پہلے شادی شدہ لڑکی۔المُهَجَّنة: پہلی بار نر کے پھول ڈالی ہوئی کھجور، چھوٹا ہوتے ہوئے بار آور کھجور۔بچی، لڑکی۔المُهَجِّنة من السوق: اچھی نسل کے سانڈ سے گابھن اونٹنی، پہلی بار کی حاملہ اونٹنی، کھجور جس پر پہلی بار نر کا پھول ڈالا جائے۔

٣۔الهجنف جمع هجانیف: لمبا چوڑا۔

ﻙ هجن ـ هُجنَةً و هَجانةً: غلط ہونا، ناقص ہونا، ناکارہ، خراب یا نکما ہونا۔هجّن ہ: کی جلد ادھیڑنا، کھال ادھیڑنا یا کھینچنا، بڑی سختی سے تنقید کرنا، کو ایذا دہی کے طور پر ڈانٹنا، ملامت کرنا، کو حقیر سمجھنا، کی برائیاں کرنا۔اِستهجن ہ: کو برا، غلط یا نامناسب سمجھنا، کو ناپسند کرنا، کو رد کرنا، ناکارہ قرار دینا، مسترد کرنا۔هُجنة: نقص، خرابی، کوتاہی، قصور، خامی، کمزوری، کمینگی، کمینہ پن، حرامی پن۔هجّان جمع هجّانة: شتر سوار۔هجین جمع هُجُن و هُجَناء و مهاجین و مهاجنة: نیچا، کمینہ، کم ظرف، کم اصل، رذیل، ذلیل۔جمع هُجُن: دوڑنے والا اونٹ، اونٹنی، ناقہ، سانڈنی۔هجینة جمع هجائن: دوڑنے والا اونٹ، اونٹنی، ناقہ، سانڈنی۔استهجان: ناپسندیدگی، نفرت، ناراضمندی، ناخوشی، نامنظوری، انکار۔

هجو: ا۔هجا یهجو هَجوًا و هِجاءً و تَهجاءً ہ: کے عیب گننا، کی برائی بیان کرنا، کو گالی دینا، کی ہجو کرنا، صفت فاعلی هاجٍ صفت مفعولی مهجوّ۔هجاوۃُ الیوم: دن کا سخت گرم ہونا۔هاجاہ مُهاجاۃً ہ: ایک دوسرے کی ہجو کرنا۔اُهجی اِهجاءً القولَ: قول کو ہجو آمیز پانا۔تهاجیا تهاجیًا و اهتجیا اهتجاءً: ایک دوسرے کی ہجو کرنا۔الهجاۃ (ح): مینڈک۔الهَجّاء: بہت ہجو کرنے والا۔کہا جاتا ہے: رجلٌ هَجّاءٌ: بہت ہجو کرنے والا آدمی۔الاُهجوّۃ والاُهجیّۃ جمع اَهاجی: ہجو (قطعہ یا قصیدہ کی صورت میں) کہا جاتا ہے بینهم اُهجوّۃ او اُهجیّۃ یتهاجون بها: ان کے درمیان ہجو بازی چل رہی ہے۔

٢۔هجا یهجو هَجوًا و هجاءً الحروفَ: حروف کی ہجے کرنا۔ـ هجاءً: پڑھنا۔هجّی تهجیۃً الحروفَ: حروف کی ہجے کرنا۔ـ اللفظۃَ: لفظ کے حروف کا جوڑ کرنا۔ـ الصبیَّ الکتابَ: بچے کو کتاب پڑھانا۔تهجّی تهجّیًا الحروفَ: حروف کی ہجے کرنا۔الهجاء: حروف کا جوڑ، حروف الهجاء: الف سے لے کر یا تک کے حروف۔ان کو حروف التهجی اور حروف التهجیۃ بھی کہتے ہیں۔کہا جاتا ہے هذا علی هجاء هذا: یہ اس کی شکل پر ہے۔هو علی هجاء فلان: وہ فلاں پر گیا ہے، اتنا ہی لمبا ہے اور ویسی ہی شکل ہے۔

ﻙ هجا ـ هَجوًا و هِجاءً ہ: کا مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، کو ہیچ سمجھنا، کا استہزاء کرنا، کی ہجو کرنا، پر طنز کرنا، کو بدنام کرنا، کا حقارت سے ذکر کرنا، کی برائیاں کرنا، کی سخت ہجو کرنا، کی ہجو قبیح کرنا۔هاجاہ: کے خلاف ہتک آمیز یا ہجویہ نظمیں لکھنا، کی ہجو کرنا۔هجّی و تهجّی ہ: کی ہجے کرنا۔تهاجا: ہجویہ اشعار میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔هجو: مذاق اڑانا، بدنام کرنا، ہنسی اڑانا، ہیچ سمجھنا، حقارت سے ذکر کرنا، برائیاں کرنا، ہجو کرنا، ہجو، ہنسی، مذاق، طنز، ہجویہ اشعار۔هجوی: بدنام کن، ہجوی، استخفافی۔هجا: استہزاء، تحقیر، مذاق، تمسخر، طنز، طعن و تشنیع، چڑانا یا مضحکہ اڑانا، تعریض، ہجویہ تصنیف، طنزیہ نظم، بدنام کن نظم۔جمع اَهجیۃ: ہجے، حروف کی لگاتار ترتیب ابجد۔هجائی: ابجدی، تعریفی، طنز آمیز، ہجویہ۔اُهجوّہ و اُهجیۃ جمع اَهاجی: ہجوی نظم، مذمت، ہجو، ہجو قبیح۔

هد: ا۔هدّ ـ هدًّا و هُدودًا البناءَ: عمارت کو دھڑام سے گرا دینا۔هدّته المصیبۃُ: مصیبت نے اس کے اعضا کو کمزور کر دیا۔هدّنی هذا الامر او هدّ رکنی: اس معاملہ نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، جوڑ جوڑ ہلا دیا۔ـ هدًّا الرجلُ: بوڑھا ہونا۔ـ هدًّا البعیرُ: اونٹ کا بلبلانا۔ـ هدیدًا الحائطُ و نحوہُ: دیوار وغیرہ کا دھماکے سے گرنا۔کہا جاتا ہے: هذا رجلٌ هدّك من رجلٍ: یہ مرد تم سے زیادہ طاقت ور ہے۔بعض اس کو مصدر مان کر اس کا تثنیہ جمع، جمع یا اس کو مونث وغیرہ کی شکل میں نہیں لاتے اور بعض اس کو فعل جان کر یہ سب صورتیں اس میں جائز رکھتے ہیں۔مررتُ برجلٍ هدّك من رجلٍ و بامراۃٍ هدّتك من امراۃٍ و برجلین هدّاك و برجال هدّوك و بامراتین هدّتاك و نساءٍ هددنك: میں ایک مرد، ایک عورت، دو مردوں یا دو سے زائد مردوں، دو عورتوں یا دو سے زائد عورتوں کے پاس سے گزرا جو تم سے زیادہ طاقتور اور سخت تھیں۔انه لَهدّ الرجلُ: وہ ایک بہت ہی اچھا آدمی ہے۔مطلق تعجب کے معنی میں بھی مستعمل ہے جیسے فلان یُهدّ: وہ دھن کا پکا ہے۔هدّد و تهدّد ہ: کو ڈرانا، دھمکانا۔تهادّ تهادًّا القومُ: ایک دوسرے کی پیروی کرنا۔انهدّ انهدادًا الجبلُ او البیتُ: ٹوٹنا، گرنا۔استهدّہ: کو کمزور سمجھنا۔الهادّ (فا): سمندر کا شور۔الهادّۃ: هاد کا مونث۔گرج کہا جاتا ہے ما سمعنا العامَ هادّۃً: ہم نے سال بھر گرج نہیں سنی۔الهدّ (مص): فیاض آدمی، سخت آواز ـ والهدّ جمع هَدّون و هِدّون: کمزور آدمی۔الهَدَد: سخت آواز۔الهَدّۃ: هدّ کا اسم مرۃ، دیوار وغیرہ گرنے کی آواز۔الهَداد: نرمی، مہربانی۔هدادیك: نرمی سے، آہستہ سے، آرام سے، دھیرج سے، تحمل سے۔قوم هَداد: بزدل لوگ۔الهَدادۃ: بزدل۔کہا جاتا ہے رجلٌ هَدادۃ: بزدل آدمی۔الهَدُود: میدانی زمین، مشکل گھاٹی۔اکمۃ هَدُود: سخت ڈھلان والی پہاڑی۔الهدید (مص): حماکہ کی آواز، گنگناہٹ۔الاَهَدّ: بزدل۔التهدّاد: ڈرانا، دھمکی۔المِهَدّۃ: ہتھوڑے کا آلہ۔کہا جاتا ہے: جاؤوا متهادّین و متساتلین: وہ ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہوئے آئے۔

٢۔الهدید: دراز قد مرد۔

٣۔هدهد هدهدۃً البعیرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔ـ الطائرُ: پرندے کا غٹرغوں غٹرغوں کرنا۔ـ بِ الصبیّ امّہُ: ماں کا بچہ کو سلانے کے لئے ہلانا۔ـ الشیءَ من علوٍ الی اسفل: چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا، گرانا۔کہا جاتا ہے یُهَدهَد الیّ کذا: مجھے یوں خیال آتا ہے۔الهدهد: جنوں کی آوازیں۔الهُدهُد واحدہ هدهدۃ جمع هَداهد و هَداهید (ح): ہدہد۔(کہتے ہیں اَبصرُ من هُدهُدٍ: ہد ہد سے بھی زیادہ تیز نظر، کیونکہ عرب کا خیال ہے کہ ہد ہد زمین کے نیچے پانی کو دیکھ لیتا ہے۔) ہر کو کو کرنے والا پرندہ، بہت کو کو کرنے والا کبوتر۔الهُدَاهِد واحد هُدهُدۃ جمع هَداهد و هَداهید (ح): ہد ہد۔الهُداهِد واحد هُداهِدۃ جمع هَداهد و هداهید (ح): ہد ہد۔الهَداهد: نرمی، صبر۔علیك بالهداهد: صبر کرو۔

ﻙ هدّ ـ هدًّا و هُدوًّا ہ: کو توڑنا، کچلنا، گرانا، تباہ کرنا۔ـ ہ/ہ: کو نیچے سے کاٹنا، کی اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کرنا، کو کمزور کرنا، تباہ کرنا۔ـ هدیدًا: گر پڑنا۔ـ هدًّا: کمزور ہونا، خستہ حال ہونا، درماندہ ہونا۔هدّدہ ب: کو کے ذریعے دھمکانا، کے لئے کا خطرہ بننا۔ـ ہ: کو ڈرانا، خائف کرنا، دھمکانا، کی ہمت توڑنا، حوصلہ شکنی کرنا، کو مرعوب کرنا، پر رعب ڈالنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کوگھر کنا۔تَهَدَّد: بمعنی هَدَّدَ۔ اِنْهَدَّ: پھٹ جانا، مسمار ہونا، گرنا، تباہ ہونا، گر پڑنا، ٹوٹا پھوٹا ہونا، ٹوٹا ہوا یا شکستہ ہونا، تباہ ہونا۔هَدّ: گرانا، تباہ کرنا، مسماری، تباہی۔هَدّ و هَدِید: بھاری یا بھد سے گرنا، دھمک یا بھد سے گرنے کی آواز، گرتی چیز کی گڑگڑاہٹ۔

هَدَاد: نرمی، سستی۔مِهَدَّة: پتھر توڑنے کا آلہ۔

تَهْدِید جمع تهدیدات: دھمکی، ڈرانا، چشم نمائی، دہشت پیدا کرنا، تخویف۔تهدید بالتشهیر: استحصال، راز چھپانے کے لئے دباؤ ڈال کر رقم لینا، بلیک میل۔

تهدیدی: دھمکی آمیز۔تَهَدُّد: دھمکی، تخویف، ڈرانا، چشم نمائی۔مَهْدُود: تباہ شدہ، مسمار شدہ، تباہ کیا ہوا۔مَهْدُود القُوَى کمزور کیا ہوا، تھکا ماندہ، مضمحل۔

مُهَدِّد: ڈرانے والا، دھمکی دینے والا (اسم وصفت)۔

مُهَدَّد۔ ڈرایا ہوا، دھمکایا ہوا۔

هدا ۱۔هَدَأَ يَهْدَأُ هَدْأً و هُدُوءًا: ساکن ہونا، پرسکون ہونا۔ بالمکان کسی جگہ اقامت کرنا۔کہاجاتا ہے: تساقطوا إلى بلد کذا فهدأ وا فيه: وہ فلاں شہر میں ایک ایک کرکے آئے اور اقامت کی۔۔۔ فلانٌ: مرنا۔کہاجاتا ہے أتانا فلانٌ و قد هدأت العينُ و الرِجلُ: وہ اس وقت آیا جب لوگ سوئے ہوئے تھے۔

۔۔۔ الصبيَّ: بچہ کو سلانے کے لئے تھپکنا۔هَدَّأَ تَهْدِئَةً ہ: کو چپ کرانا، تسکین دینا۔أَهْدَأَ إهداءً ہ: کو تسکین دینا، چپ کرانا۔الصبيَّ: بچہ کو سلانے کے لئے تھپکنا۔

عرب کہتے ہیں لا أهدأه اللهُ: خدا اس کو اس کی مصیبت میں چھوڑدے۔الهُدْءُ و الهَدْءُ: رات کا ابتدائی حصہ۔کہاجاتا ہے أتانا بعد هَدْءٍ من الليل: وہ رات کے ابتدائی حصہ کے بعد آیا، وہ ہمارے پاس لوگوں کے سونے کے بعد آیا۔الهَدْأَة: هدأ کا اسم مرہ ۔۔۔ من الليل: رات کا ابتدائی حصہ۔الهِدْأَة: اسم نوع۔کہاجاتا ہے ماله هِدْأَةُ ليلة: اس کے پاس ایک رات کا گزارہ بھی نہیں۔الهَدَأَة: ایک قسم کی دوڑ۔کہاجاتا ہے هو أَهْدَأُ مما كان: وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔الهَدِيءُ من الليل: رات کا ابتدائی حصہ۔الهدوء من الليل: رات کا ابتدائی حصہ۔کہاجاتا ہے أتانا فلانٌ هُدُوءًا: وہ ایک نیند لے کر آیا۔المَهْدَأُ من الليل: رات کا ابتدائی حصہ۔المُهَدَّأَة: حالت۔کہاجاتا ہے تركته على مُهَيْدِئَتِهِ: میں نے اسے اسی حالت میں چھوڑا جو پہلے تھی (یہ مُهَدَّأَة کی تصغیر ہے)۔

۲۔هَدِئَ يَهْدَأُ هَدَأً: کبڑا ہونا۔۔۔ البعيرُ: بہت بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اونٹ کے کوہان کا چھوٹا ہونا۔أَهْدَأَ إهْدَاءً الكبرُ او الضربُ فلاناً: بڑھاپے یا مار کا کسی کو کبڑا کردینا۔الله مُنْكِبَهُ: اللہ اس کو کبڑا کرے۔

۔۔۔ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔الهَدَاءَة: دبلا گھوڑا۔الأَهْدَأُ: کبڑا۔منكِبٌ أهدأ: آگے کو جھکا ہوا کندھا۔رجلٌ أهدأ: کبڑا مرد۔امرأة هَدْآءُ: کبڑی عورت۔

۳۔الهَدْءُ: سیرت، خصلت۔

هَدَأَ ۔هَدْأً و هُدُوءًا: خاموش ہونا، ساکن ہونا، پرسکون ہونا، بے حس و حرکت ہونا، خاموش ہونا، گھٹ جانا، فرو ہونا، مدہم ہونا، کم ہونا، مدہم پڑنا، تھم جانا۔۔۔ ب: (کسی جگہ) پر رکنا، آرام کرنا، میں رہنا، قیام کرنا، ٹھہرنا۔۔۔ عن: کچھ کرنے سے رک جانا۔هَدَأَ رَوْعُهُ: مطمئن ہونا، خاطر جمع ہونا، جذبات پر قابو پائے ہونا۔هَدَّأَ ہ/ من: کو تسکین دینا، تسلی دینا، خاموش کرنا، اطمینان دلانا، فرو کرنا، نرم کرنا، ٹھنڈا کرنا، طمانیت بخشنا، کی ڈھارس بندھانا، کو تسکین دینا، نرم کرنا، مطمئن کرنا، ہلکا کرنا، دھیما کرنا، اعتدال پر لانا۔

هَدَّأَ اعصابَهُ: اعصاب کو تسکین دینا۔هَدَّأَ مِن رَوْعِهِ: کے اندیشے دور کرنا، کے ذہن کو آرام دینا۔

هَدِئَ و عَلَكَ: آرام سے، دھیرج سے، تحمل سے، پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، پرسکون رہو۔أَهْدَأَ بمعنی هَدَّأَ۔أَهْدَأَ ہ: بچہ کو لوری دے کر تھپک تھپک کر سلانا۔هَدْء: سکون، سکوت، ٹھہراؤ، خاموشی، قرار، اطمینان، امن، آسودگی، امان، طمانیت، سناٹا، گہری خاموشی۔هُدُوء: مندرجہ بالا معنے۔بِهُدُوءٍ: خاموشی سے، سکون سے، اطمینان سے، ٹھنڈے دل سے۔

هَادِئ: خاموش، پرسکون، کم آواز، مطمئن، پرامن، ساکن، آسودہ، پراطمینان، بے حس و حرکت، چپ چاپ، چپ۔هادئُ القلب: مطمئن، پرسکون، ٹھنڈے دل سے، اطمینان سے، سکون سے، بے باک، راز دار، متیقن، استقلال کے ساتھ، یقین کیساتھ۔هادئ البال: مطمئن خاطر۔ج۔ جمعیت خاطر کے ساتھ، اطمینان سے، سکون دل سے۔

المحيط الهادئ: بحرالکاہل (the Pacific ocean).

هدب هَدَبَ ۔هَدْبًا الشيءَ: چیز کو کاٹنا۔۔۔ الناقةَ: کو دوہنا۔۔۔ الثمرةَ: پھل چننا۔هَدِبَ ۔هَدَبًا ت العينُ: آنکھ کا لمبی پلکوں والا ہونا۔۔۔ ت الشجرةُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا، جو اردگرد لٹکتی یا جھولتی ہوں۔هَدَّبَ الثمرةَ: پھل چننا۔۔۔ الثوبَ: کپڑے کا پھندنا بنانا۔أَهْدَبَت الشجرةُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا، جو چاروں طرف لٹکتی یا جھولتی ہوں۔تَهَدَّبَ السحابُ: بادل کا زمین کے قریب ہونا۔۔۔ ت الاغصانُ: ٹہنیوں کا لٹکا ہوا ہونا۔

إهتدبَ الثمرةَ: پھل چننا۔الهُدْب و الهُدُب واحد هُدْبَة و هُدُبَة جمع أهْداب: پلک، کپڑے کا پھندنا، جھالر۔الهَدَب جمع أهداب: ارطی یا اس جیسے درختوں کی ٹہنیاں۔درخت کے ہمیشہ رہنے والے پتے جیسے سرو کے پتے ۔۔۔ من النبات: گھاس جس کے پتے نہ ہوں، بے چوڑائی کا پتہ۔هَدَبُ الشجرة: درخت کی ٹہنیوں کی لمبائی اور لٹکنا۔الهَدِب (ح): شیر ۔۔۔ من العيون او الاشجار: لمبی پلکوں والی آنکھ، لمبی شاخوں والا درخت۔الهُدَّب: کند ذہن، عاجز۔الهُدَّاب: کند ذہن ۔۔۔ واحد هُدَّابة: سدا بہار پتے۔کہاجاتا ہے قطع هَدَبَ الشجرة و هُدَّابَها: اس نے درخت کی ٹہنیاں کاٹیں۔هُدَّاب النخل: کھجور کے درخت کے پتے ۔۔۔ الثوب: جھالر۔هُدْبِيَّة الاذناب او المُذنبات (ح): بے پر کے حشرات ارض، جانوروں کے بچے، مچھلی کے چھلکے۔الأهْدَب م هَدْباء جمع هُدْبٌ: لمبی اور گھنی پلکوں والا۔شجر اهدب: لٹکتی ٹہنیوں والا درخت۔

نسرٌ أَهْدَبُ: لمبے پروں والا گدھ۔عينٌ هَدْباء: لمبی پلکوں والی آنکھ۔شجرة هَدْباء: لمبی اور لٹکی ہوئی شاخوں والا درخت۔أُذُنٌ هَدْباء: لٹکتا ڈھیلا کان۔

لِحْيَةٌ هَدْباءُ: لٹکتی ہوئی داڑھی۔الهَيْدَب: بہت بالوں والا، عورت کا پستان ۔۔۔ من السحاب: زمین کے قریب لٹکا ہوا بادل ۔۔۔ من الرجال: کند ذہن، عاجز۔

هَدِبَ ۔هَدَبًا: (آنکھ کا) لمبی پلکوں والا ہونا، (درخت کا) لمبی اور جھکی ہوئی شاخوں والا ہونا۔هَدَّبَ ہ: (لباس) کو جھالر لگانا، کے پلو بنانا، کو جھالر، حاشیہ یا پلو سے آراستہ کرنا۔هُدْب و هُدُب اسم جمع واحد هدبة جمع أهْداب: پلکیں، جھالریں۔بأهداب: جھالروں سے آراستہ، جھالر لگا۔تَمَسَّكَ بأهدابه: کسی کا انتہائی جانثار ہونا، کسی کے اشارے پر چلنا، کسی کی مٹھی میں یا کسی کے قابو میں ہونا۔تَمَسَّكَ او تَعَلَّقَ بأهداب الشيء: سے چپکنا، جڑا رہنا، لگا رہنا، چمٹنا، سے وفاداری کرنا۔أخذ بأهداب الشيء: پر توجہ دینا، میں مصروف ہونا، پر کامل توجہ کرنا، کی دھن میں لگا رہنا، کو سدھارنا، سنوارنا، تربیت دینا، کی زمین تیار کرنا، کو عمل میں لانا، کی مشق کرنا۔هَدِب: لمبی پلکوں والا۔أَهْدَب م هَدْباء: لمبی پلکوں والا۔هُدَّاب

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(اسم جمع واحد هُدّابَة) جھالریں، باڈر، پلو، حاشیہ۔ مغزی کنارہ، سنجاف، کور۔

هدج: هَدَجَ ـهَدْجًا و هَدَجَانًا و هُدَاجًا: بوڑھے کی چال چلنا۔ــ الظليمُ: شترمرغ کا کانپتے ہوئے چلنا۔ــ هَدْجًا و هَدْجَةً ت الناقةُ: اونٹنی کا اپنے بچے سے پیار کرنا۔ــ ت القدرُ: ہانڈی کا اُبلنا۔ــ ت الريحُ: ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ هَدَّجَ ت الناقةُ: اونٹنی کا بلند کوہان والی ہونا۔ تَهَدَّجَ الصوتُ: آواز لرزنا۔ــ ت الناقةُ: اونٹنی کا اپنے بچے پر شفقت کرنا۔ النسوةُ على فلان: کی مہربانیاں ظاہر کرنا۔ تَهَدَّجَ: کانپتے ہوئے چلنا۔ الهدّاجُ: صیغۂ مبالغہ، بوڑھے کی چال چلنے والا۔ ظليم هَدّاجٌ: کانپتے ہوئے چلنے والا شترمرغ۔ قنافذُ هدّاجون حول بيوتهم: سیہیاں ان کے مکانوں کے گرد کانپتے ہوئے چلتی ہیں۔ قِدرٌ هَدُوجٌ: جلد ابلنے والی ہانڈی۔ الهَوْدَجُ جمع هَوَادِجُ: کجاوہ، ہودہ۔ المِهْدَاجُ: اپنے بچے سے پیار کرنے والی اونٹنی، سائیں سائیں کرنے والی ہوا۔ المُسْتَهْدِجُ (فا): جلد باز۔ المُسْتَهْدَجُ: مصدر: جلد بازی۔ (یہ مصدر میمی ہے)

۲۔ الهَدَجَاجُ: بوڑھے کی چال چلنے والا شترمرغ جو چلنے میں کانپتا ہے۔

ب هَدَجَ ـهَدْجًا و هَدَجَانًا و هُدَاجًا: لڑکھڑا کے چلنا، گھسٹ کر چلنا، پیر رگڑ کر چلنا، ڈانواں ڈول، لڑکھڑاتے یا کانپتے ہوئے قدموں سے چلنا، لڑکھڑاتے ہوئے چلنا لنگڑا کر چلنا۔ هَدَّجَ ه: کسی چیز کو لرزانا، تھرانا۔ تَهَدَّجَ: کانپنا، لرزنا، تھرانا (آواز کا)۔ هَوْدَج جمع هَوَادِج: کجاوہ، ہودہ، پالکی، ڈولی۔

هدر: ا۔ هَدَرَ ـهَدْرًا و هَدَرًا الدمُ وغيره: خون وغیرہ رائیگاں جانا۔ــ فلانٌ الدمَ وغيرَه: فلاں کا خون وغیرہ کو باطل کرنا۔ أَهْدَرَ دَمَ فلان: فلاں شخص کا خون باطل کرنا اور مباح کرنا۔ تَهَادَرَ القومُ: ایک دوسرے کے خون کو مباح کرنا۔ اِهْدَوْدَرَ المطرُ: بارش کا زور سے برسنا۔ الهَادِرُ (فا) جمع هَدَرَة: رائیگاں۔ الهَادِرَة جمع هَوَادِر: هادر کا مؤنث۔ الهَدَر (مص): گرنے والا، رائیگاں۔ کہا جاتا ہے: ذهب دمُهُ هَدْرًا: اُس کا خون رائیگاں گیا۔ ذهب مالُهُ او سعيُهُ هَدْرًا: اس کا مال یا کوشش رائیگاں گئی۔ الهدِر جمع هِدَرَة: سست نکما۔ کہا جاتا ہے: بنو فلان هَدَرَةٌ او هُدَرَةٌ: فلاں قبیلہ والے نکمے ہیں۔ واحد و مؤنث بھی اسی طرح ہے۔ الهَدَر: ناکارہ، رائیگاں، ناکارہ لوگ۔ کہا جاتا ہے: هو جبانٌ هَدَرَةٌ: وہ بزدل اور ناکارہ شخص ہے۔

۲۔ هَدَرَ ـهَدْرًا و تهْدَارًا الحمامُ: کبوتر کا کوکو کرنا۔ــ الشرابُ: شراب کا جوش مارنا۔ــ ت جرّةُ النبيذ: مٹکے میں نبیذ کا جوش مارنا۔ــ الرعدُ: بادل گرجنا۔ــ النخلُ: کھجور کا شگوفہ نکلنا۔ــ هَدْرًا و هَدِيرًا البعيرُ: اونٹ کا بلبلانا۔ــ هُدُورًا و هَدِيرًا العشبُ: گھاس کا بہت لمبا ہونا۔ هَدَّرَ البعيرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔ الهادِرُ: وہ دودھ جس کا اوپر کا حصہ گاڑھا ہو اور نیچے کا حصہ پتلا۔ الهَادِرَة جمع هَوَادِر: بہت گھاس والی محدود زمین۔ الهَدَّار: مبالغہ کا صیغہ۔ کہا جاتا ہے: رَعْدٌ هَدَّار: بہت گرجنے والا بادل۔ الأَهْدَر م هَدْرَاء جمع هُدْر: پھولا ہوا۔ المُهْدَرَة: آگے کے چھوٹے دانت۔

۳۔ الهِدْرُجِين (ل): ہائیڈروجن (ایک بہت ہلکی گیس کا نام ہے۔ انگریزی میں اسے (hydrogen) کہتے ہیں۔ اس کا کوئی رنگ یا بو نہیں ہوتی، جلنے کے قابل ہے، پانی ترکیب میں آکسیجن کے ساتھ شامل ہے۔ الهدروجين الثقيل او الدوتيرلوم: ہائیڈروجن کی ایک قسم جس کا ثقل عام ہائیڈروجن سے دوگنا ہوتا ہے آکسیجن سے مل کر ان سے بھاری پانی بنتا ہے جو ایٹمی تحقیقات میں استعمال ہوتا ہے۔

۴۔ الهَدَارِيس: مصائب۔

ب هَدَرَ ـهَدْرًا و هَدِيرًا: (بادل کی گرج) کا زور سے گرجنا، گڑگڑانا، (سمندر کا) موجزن ہونا، متلاطم ہونا، چڑھنا (شیر کا) دھاڑنا، (گدھے/اونٹ کا) ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا/ بلبلانا؛ شور مچانا، غوغا کرنا، ہنگامہ برپا کرنا، غل مچانے والا ہونا، (آدمی کا) سخت خفا ہونا، آگ بگولا ہونا، طیش میں آنا، طوفان بپا کرنا۔ لمبی چوڑی ہانکنا، چیخنا، (غصہ میں) غرانا، بلبلے اٹھنا، ابلنا، کھولنا، جوش کھانا، ابلنے کے قریب ہونا۔ــ ب: کوئی بات بے تامل کہہ دینا ناگفتنی بات کہہ دینا۔ــ هَدْرًا و هَدَرًا: فضول ہونا، بیکار رہنا، لاحاصل ہونا، رائیگاں جانا۔ (مال کا یونہی یا بیکار خرچ ہونا)۔ (خون) کا رائیگاں جانا، یا بلاخوف عقوبت بہایا جانا۔ــ ه: (کوشش، مال) کو یونہی یا بیکار خرچ کرنا، ضائع کرنا، گنوانا، (صحت) تباہ کرنا، (خون) کو بیکار بہانا یا بلاخوف عقوبت بہانا۔ أَهْدَرَ ه: کو ناموجود سمجھنا، کو ناجائز سمجھنا، کو باطل کرنا، ناجائز قرار دینا، بے کار کرنا، بے اثر کرنا، کو کالعدم کرنا، کو تباہ کرنا، کو خاک میں ملا دینا، مات کرنا، کو ناکام بنا دینا۔ هَدْرًا: بیکار، یونہی، بے فائدہ، فضول، لاحاصل۔ ذَهَبَ هَدْرًا: یونہی گیا، بےکار گیا، رائیگاں گیا، فضول گیا، بےکار خرچ ہونا، ضائع ہونا۔ هُدور: سقوط، گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا۔ هَدّار: چکر کھانے والا، تیزی سے جانے والا، گرجنے والا، دھاڑنے والا، سخت تیز متلاطم، موجزن (سمندر)، بند (dam)۔ هَدّارَة: آبشار۔ هَدِير: گرجنا، دھاڑنا، گرج، دھاڑ، آگ بگولا، طیش میں، زور سے چلنے والی، ہنگامہ، فساد، شور وغل۔ مُهْدَر: باطل، ناجائز، قانوناً بیکار، بے اثر، بے بنیاد، غیر صحیح، غیر مسلمہ، ناقص، بےکار، بے فائدہ، کالعدم، باطل۔

هدس: هَدَسَ فيه: پر غور کرنا (سریانی عوامی زبان میں)۔

هدش: هُدِشَ هَدْشًا الكلب فَانْهَدَشَ اِنْهِدَاشًا: کتے کا بھڑکایا جانا، جس پر اس کا بھڑک اٹھنا۔

هدغ: هَدَغَ ـهَدْغًا: کو توڑنا۔ اِنْهَدَغَ: ٹوٹنا۔ــ الشيءُ: خشک ہونے کے بعد نرم ہونا۔ــ ت الرطبةُ: تازہ کھجور کا گر کر پھٹنا۔

هدف: ا۔ هَدَفَ ـهَدْفًا اليه: کے پاس آنا، میں داخل ہونا۔ــ للخمسين: پچاس کے قریب ہونا۔ــ هَدْفًا الى الشيء: کی طرف جلدی جانا۔ــ اليه: کا قصد کرنا، کو اپنا ہدف بنانا۔ أَهْدَفَ للخمسين: پچاس کے قریب ہونا۔ــ على التل: ٹیلہ پر سے جھانکنا۔ــ اليه: کے پاس پناہ لینا۔ــ له الشيءُ: کو دکھائی دینا، کے قریب ہونا۔ــ منه: کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے: أَهْدَفَ لَكَ الصيدُ فارمه: شکار تیر کے سامنے اور قریب آ گیا ہے لہٰذا اُس پر فائر کرو۔ اِسْتَهْدَفَ لَهُ الشيءُ: کے لئے کھڑا ہونا۔ــ الشيءُ: بلند ہونا۔ سامنا کرنا۔ کہتے ہیں: من صنّف فقد استهدف: مصنف کو لوگوں کی باتوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ــ كفلُ الانسان او الحيوان: انسان یا جانور کے چوتڑ کا موٹا ہونا۔ الهَادِف (فا): مسافر۔ الهَادِفَة: جماعت، گروہ۔ الهِدْف: جسیم۔ الهَدَف جمع أَهْدَاف: ہر ایک بلند عمارت، ریت کا ٹیلہ، یا پہاڑ، نشانہ، بڑا آدمی۔ الهِدْفَة جمع هِدَف: لوگوں کی جماعت۔ مکانات جن میں لوگ کچھ دن کے لئے ٹھہریں پھر کوچ کر جائیں۔

۲۔ هَدَفَ ـهَدْفًا: سست ہونا، کمزور ہونا۔ الهَدَف جمع أَهْدَاف: بوجھل بہت سونے والا، ناکارہ آدمی۔

ب هَدَفَ ـهَدْفًا الى: کے پاس جانا، نزدیک جانا، کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

قریب ہونا، کا نشانہ یا شست باندھنا، کی تمنا یا آرزو کرنا۔ أَهْدَفَ إلی ۔ کے پاس جانا، کے نزدیک جانا، کے قریب ہونا، تَهَــدَّفَ ۔ اکڑ کے چلنا، اترا کے چلنا۔ اِسْتَهْدَفَ لِـ لِـی : خطرہ کے لئے کھلا ہونا، کے خطرے میں ہونا۔ ـــ ۔ سے اثر پذیر ہونا، کیلئے سریع التاثر ہونا، حساس ہونا، زود اثر ہونا، سے جلد متاثر ہونے والا ہونا، کا فوراً اثر قبول کرنے والا ہونا۔ ـــ ہ کو اپنا مقصد یا ہدف بنانا، کی تمنا کرنا، کی آرزو کرنا، مقصد ہونا، کو پیش نظر رکھنا، کو ذہن میں رکھنا۔

هَدَفٌ جمع أَهْدَاف نشانہ، ہدف، مقصد، مدعا، غرض، غایت، ارادہ، عزم، گول (کھیلوں میں)۔ جَعَلَهُ هَدَفًا لِـ : کو کا نشانہ یا ہدف بنانا، کو کا مقصد بنانا، کو (خطرہ) میں ڈالنا۔ كَانَ هَدَفًا لِـ کے خطرے میں ہونا، کے لئے کھلا ہونا۔ أَهْدَافٌ حَرْبِيَّةٌ جنگی نشانے، ہدف۔ هَدَّاف بڑا نشانہ باز، نشانہ باز۔ هَدَفان: (مشق) نشانہ۔ مُسْتَهْدِفٌ لِـ کے خطرہ میں، کے لئے کھلا۔

هدك: هَدَكَ ـهَدْكًا البناءَ: عمارت کو ڈھانا۔ تَهَدَّكَ تَهَدُّكًا: بے وقوف بننا۔ ـــ عليه بالكلام: کو دھمکانا۔

هدل: ا۔ هَدَلَ ـهَدْلاً الشيءَ: کو لٹکانا۔ هَدِلَ ـ هَدَلاً: ڈھیلا ہونا۔ ـــ البعيرُ: اونٹ کا زخم سے ڈھیلے ہونٹ والا ہونا۔ تَهَدَّلَتِ الشفةُ: ہونٹ کا ڈھیلا ہونا۔ ـــ ت اغصانُ الشجرة او ثمرتها: درخت کی ٹہنیوں یا پھل کا لٹکنا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا لٹکنا۔ الهَادِل فا۔ بعيرٌ هَادِلٌ: لمبے ہونٹ والا اونٹ۔ جملٌ هَدِلٌ: لمبے ہونٹ والا اونٹ۔ الهَدَال: لٹکی ہوئی شاخیں۔ ـــ او الدِبق (ن): ایک طفیلی پودا۔ الأَهْدَل م هَدْلاء جمع هُدْل: ڈھیلے لٹکے ہوئے ہونٹ والا۔ ـــ من السحاب: زمین کے قریب تک لٹکا ہوا بادل۔ مشفرٌ أَهْدَل: ڈھیلا ہونٹ۔ شفةٌ هدلاءُ: ٹھوڑی پر لوٹا ہوا ہونٹ۔ الهَدِيل: بہت بالوں والا آدمی، الجھے ہوئے بالوں والا، جو نہ تو کنگھی کرتا ہو نہ تیل ڈالتا ہو۔ رجلٌ هَدِيلٌ: بھاری آدمی۔

۲۔ هَدَلَ ـهَدِيلاً الحمامُ او الغلامُ: کبوتر یا لڑکے کا آواز نکالنا۔ الهَدَالة: جماعت، گروہ۔ الهَدِيل: کبوتر کی آواز، کبوتر کا بچہ۔

ⓒ هَدَلَ ـهَدِيلا: کبوتر کا کوکو کرنا۔ ـــ ـهَدْلاً ہ: کو لٹکانا، ہلگانا۔ هَدِلَ ـهَدَلاً و تَهَدَّلَ: ڈھیلا لٹکنا، لٹکنا، ہلگنا، بہنا، (لباس) چوڑا اور ڈھیلا ہونا۔ اَهْدَل م هَدْلاء جمع هُدْل: ڈھیلا لٹکنے والا، بہنے والا۔ مُهَدَّل: ڈھیلا ڈھیلا لٹکنے والا، بہنے والا۔

هدم: ا۔ هَدَمَ ـهَدْمًا البناءَ عمارت ڈھانا، کہا جاتا ہے: ضَرَبَهُ فَهَدَمَهُ اس نے اسکی کمر توڑ ڈالی۔ ـــ الثوبَ کپڑے میں پیوند لگانا۔ هُدِمَ الرجُلُ في البحر سمندر میں چکر آنا۔ هَدَّمَ البناءَ عمارت ڈھانا۔ تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔ ـــ الثوبَ کپڑے میں خوب پیوند لگانا۔ تَهَدَّمَ البناءُ عمارت کا ڈھیرے ڈھیرے گرنا۔ ـــ الثوبُ کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَهَدَّمَ عليه غضبًا اس نے اسے دھمکی دی۔ تَهَادَمَ القومُ ایک دوسرے کے خون کو مباح کرنا۔ اِنْهَدَمَ البناءُ عمارت کا ڈھے پڑنا۔ الهَادِم فا۔ هَادِمُ اللذَّات: موت سے کنایہ۔ الهَدْم (مص) خون جس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے: دمُهُ هَدْمٌ اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ الهِدْم جمع أَهْدَام و هِدَم بوسیدہ یا پیوند لگا کپڑا (کہا جاتا ہے: عليه هِدْمٌ او أهدامٌ اس نے بوسیدہ یا پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔) پرانا موزہ، پیر فرتوت۔ الهَدَم: کنواں جس کے کنارے ٹوٹ ٹوٹ کر اس میں گر گئے ہوں، ہر ٹوٹ کر گرنے والی چیز (کہا جاتا ہے: انقضَّ هَدَمٌ من الحائط: گرنے والی دیوار ٹوٹ گئی) خون جو انتقام کے بغیر بہایا گیا ہو۔ (کہا جاتا ہے: دمُهُ هَدَمٌ: اس کا خون بغیر انتقام بہایا گیا)۔ (نیز کہا جاتا ہے: إنَّ حَفْرَكَ إليَّ لَهَدَمٌ و إنَّ حبلك اليَّ لأنشوطةٌ: یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کسی سے کہنا ہو کہ تمہاری مدد بہت کم ہے۔) عرب لوگ معاہدہ اور مدد کے وقت کہا کرتے تھے۔ دَمِي دَمُكَ و هَدَمِي هدمُكَ: اگر کسی نے مجھے قتل کیا تو تم میرے خون کا بدلہ طلب کرو گے اور اگر میری عزت پائمال کی گئی تو سمجھو کہ تمہاری عزت پر حرف آیا۔ شهيد الهَدَم: کنویں میں گر کر مرنے والا یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا۔ الهِدَم: بے وقوف مخنث۔ الهَدْمَة: هدم کا اسم مرۃ، ہلکی بارش، ریوڑ کا ایک حصہ۔ الهِدْمَة جمع هُدُوم: بوسیدہ کپڑا۔ الهُدَام: سمندر میں سر کا چکرانا، بحری جہاز میں جی کا متلانا۔ الهَدِيم: پہلے سال کے پودوں کا بقیہ۔ ارضٌ مَهْدُومَة: زمین جہاں ہلکی بارش ہوئی ہو۔ خُفٌّ مُهَدَّم: بوسیدہ پیوند لگا موزہ۔ عجوز مُتَهَدِّمَة: بہت بوڑھی فرتوت عورت۔

۲۔ المُهْدَم و المَهْدُوم و المَهْدُومَة: جما ہوا دودھ، کھٹا دودھ۔

۳۔ هَدْمَلَ الرجُلُ: کپڑے پھاڑنا۔ الهِدْمِل: بوسیدہ پرانا کپڑا۔ الهِدْمِلَة و الهَدْمَلَة: پرانا زمانہ۔

۴۔ الهِدْمِل: بہت بالوں والا۔ الهَدَمْل: بلند ٹیلا۔ الهِدَمْلَة: ریگستانی زمین جس میں بہت درخت ہوں، لوگوں کی جماعت۔

ⓒ هَدَمَ ـهَدْمًا ہ کو پھاڑنا، گرانا، ڈھانا، مسمار کرنا، تباہ کرنا۔ هَدَّمَ ہ بمعنی هَدَمَ۔ نیز هَدَّمَ ہ کو بھک سے اڑانا۔ تَهَدَّمَ پھٹنا، ڈھینا، گرنا، مسمار ہونا، تباہ ہونا، کا نام ونشان مٹنا، حرف غلط کی طرح مٹنا، ٹوٹا پھوٹا ہونا، شکستہ ہونا، گرنا، ڈھے جانا، گر پڑنا۔ اِنْهَدَمَ بمعنی تَهَدَّمَ۔ هَدْم گرانا، ڈھانا، مسمار کرنا (عمارت کی) مسماری، تباہی۔ هِدْم جمع أَهْدَام و هِدَم پرانا، بوسیدہ کپڑا۔ هُدُوم کپڑے، لباس۔ هَدَّام تباہ کن۔ هُدَام: سمندر میں سفر کے دوران متلی، قے۔ (Sea sikness)، تَهْدِيم تباہ کرنا، گرانا، مسماری، تباہی، فنا، انہدام، ہلاکت۔ تَهَدُّم: گرنا، ڈھینا، مسمار ہونا، مسماری۔ هَادِم: کچلنے والا، تباہ کرنے والا، نیست و نابود کرنے والا، تباہ کن، تباہ کرنے والا، گرانے والا۔ مَهْدُوم: گرایا ہوا، تباہ کیا ہوا، برباد کیا ہوا، توڑا پھوڑا ہوا۔ مُهَدَّم و مُتَهَدِّم: توڑا پھوڑا ہوا، گرایا ہوا، مسمار کیا ہوا، تباہ کیا ہوا، برباد کیا ہوا، کھنڈر شدہ، گرنے یا ٹوٹنے کے قریب، ٹوٹا پھوٹا، خراب، خستہ، بری حالت میں۔ مُسْتَهْدِم: شکستہ، ٹوٹا پھوٹا، گرنے کے قریب (دیوار)۔

هدن: ا۔ هَدَنَ ـهُدُونًا: آرام پانا، بزدل ہونا، ڈھیلا ہونا۔ ـــ هَدْنًا الرجُلَ: کو جھوٹے وعدے وغیرہ سے تسلی دینا۔ ـــ الصبيَّ: بچہ کو خوش کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو دفن کرنا۔ ـــ فلانًا: کو قتل کرنا۔ هُدِنَ عنك فلانٌ: کسی کا تھوڑی سی چیز پا کر تم سے راضی ہو جانا۔ هَدَّنَهُ: کو تسکین دینا، تسلی دینا۔ کہا جاتا ہے: هدَّنوه بالقول حتى هدن: انہوں نے اس کو باتوں سے تسلی دی یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ ـــ الصبيَّ: بچہ کو خوش کرنا۔ کہا جاتا ہے: هَدَّنت المراة صبيها بكلامها لينام: عورت نے بچے کو باتوں سے خوش کر دیا تاکہ وہ سو جائے۔ هَادَنَ مُهَادَنَةً ہ: سے صلح کرنا۔ أَهْدَنَ الخيلَ: گھوڑے کو دبلا کرنا۔ تَهَادَنَ الامرُ: کسی امر کا درست ہونا۔ ـــ القومُ: باہم صلح کرنا۔ اِنْهَدَنَ الرجُلُ عن عزمه: اپنے ارادہ میں سست ہونا۔ الهِدْن: زرخیزی، ثمر آوری، بار آوری۔ الهَدِن: ڈھیلا۔ الهَدْنَة: هدن کا اسم مرہ، تھوڑی ہلکی بارش۔ الهُدْنَة جمع هُدَن: مصالحت، آرام و سکون، صلح کی شرائط طے کرنے تک جنگ بندی۔ الهِدَانة: جنگ

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کے بعد مصالحت۔ الھُدُون: سکون، صلح۔ المَھْدَنَۃ: سکون آرام۔ المَھْدُون (مفع): بہت سونے والا جو نماز نہ پڑھے اور نہ صبح کی حاجت کو جائے، وہ کند ذہن جس کو بات چیت خوش نہ کر سکے۔

۲۔ الھِدَان جمع ھُدُون: احمق، اکھڑ، جنگ میں سست

⊙ ھَدَنَ -ھُدُونًا: خاموش یا پرسکون ہونا یا ہو جانا، خاموشی اختیار کرنا، تسلی یا تسکین پانا۔ ھَادَن ہ: سے عارضی صلح کرنا۔ ھُدْنَۃ جمع ھُدنات خاموشی، سکون، آسودگی، اطمینان، امن، وقفہ، مہلت، التواء، موقوفی، خاتمہ، عارضی صلح، جنگ بندی، التوائے جنگ۔ ھِدَانَۃ عارضی صلح، جنگ بندی، التوائے جنگ، امن۔ ھُدَن: خاموشی، سکون، آسودگی، اطمینان۔ مُھَادَنَۃ: عارضی صلح کا تصفیہ، عارضی صلح کی بات چیت، مذاکرات۔

ھدی: ۱۔ ھَدَی یَھْدِی ھُدًی و ھَدْیًا و ھِدْیَۃً و ھِدَایَۃ ہٗ: کی راہنمائی کرنا۔ (کہا جاتا ہے: ھداہُ الطریقَ و ھداہ الی الطریق و للطریق: اس نے اُسے راستہ بتایا، آگاہ کیا)۔ ۔ ہٗ اللّٰہُ الی الایمان او للایمان: کو اللہ تعالیٰ کا ایمان کی طرف راہنمائی کرنا۔ ۔ الرجُلَ ہدایت پانا۔ ۔ ھِداءً فلانًا: کے آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے: جاءَت الخیلُ یھدیھا فرسٌ اَشقَر: گھوڑے اس طرح آئے کہ ان کے آگے ایک بھورے بالوں والا گھوڑا تھا۔ ھَادَی مُھَادَاۃً و ھِداءً فلانًا: کو چلانا، ہانکنا۔ کہا جاتا ہے: جاء فلانٌ یھادی بین اثنین: وہ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیتا ہوا آیا۔ تھَدَّی تھَدِّیًا: ہدایت پانا۔ تھَادَی تَہَادِیًا الرجُلُ: لڑکھڑاتے ہوئے چلنا۔ کہا جاتا ہے: جاء یتھادی بین اثنین: وہ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیتا ہوا آیا۔ اِھْتَدَی اِھْتِدَاءً: ہدایت پانا۔ (کہا جاتا ہے: اھتدی إلی الطریق و اھتدی الطریقَ إلی مکان کذا: اس نے فلاں جگہ جانے کے راستے کو جان لیا)۔ ۔ الرجُلُ: ہدایت طلب کرنا۔ ـــ الفرسُ الخیلَ: گھوڑے کا دوسرے (پہلے) گھوڑوں میں شامل ہونا۔ اِسْتَھْدَی اِسْتِھْدَاءً: ہدایت طلب کرنا۔ الھَادِی جمع ھادُون و ھُدَاۃ (فا) و ـــ جمع الھَوَادِی: لاٹھی، آگے رہنے والا، گردن، نیزے یا تیر کا پھل۔ ۔ (ح): شیر۔ ھَوَادِی اللیل: رات کا آغاز۔ ھَوادِیُ الإبل: آگے آگے چلنے والا اونٹ۔ الھَادِیَۃ جمع ھَادِیات و ھَوَادٍ: ھادی کا مؤنث، لاٹھی، پانی میں ابھری ہوئی چٹان، گردن۔ کہا جاتا ہے: اقبلت ھادیات الخیل و ھوادیھا: آگے آگے چلنے والے گھوڑے آئے۔ الھَدْی (مص): طریقہ، سیرت۔ کہا جاتا ہے: ما أَحْسَنَ ھدیَہُ: اس کی سیرت کتنی اچھی ہے۔ ھدیَ ھدیَہ: وہ اس کی سیرت پر چلا۔ جئتہ بعد ھَدْی من اللیل: میں رات کا ایک پہر گئے اس کے پاس آیا۔ الھُدَی: رہنمائی، بیان، دلالت، ہدایت (مونث ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا ہے)۔ (کہا جاتا ہے: ھو علی الھُدی: وہ ہدایت پر ہے۔)، دن۔ الھَدْیَۃ جمع ھَدْیٌ: طریقہ، سیرت، کہا جاتا ہے: مَا أَحْسَنَ ھَدْیَتَہٗ: اس کی سیرت کتنی اچھی ہے، الھِدْیَۃ: ھدی کا اسم نوع۔ و ـــ جمع ھَدْیٌ: طریقہ، سیرت۔ کہا جاتا ہے: ما أَحْسَنَ ھِدیتَہٗ: اس کی سیرت کتنی اچھی ہے۔ خُذْ فی ھِدْیَتِك: جو بات تو کر رہا تھا یا جو کام تو کر رہا تھا، اسے کرتا رہ۔ ضلّ ھِدْیَتَہٗ: وہ جو چاہتا تھا اس سے بھٹک گیا۔ ھدْیَۃُ الامر (بتثلیث الھاء) طریق کار۔ نَظَرَ فلانٌ ھدْیَۃَ أَمرہ: فلاں نے اپنے طریقۂ کار پر غور کیا۔ رجُلٌ ھِدَاءٌ: کمزور، بے وقوف آدمی۔ الھِدَایَۃ (مص): رہنمائی۔ الھَدُوُّ: رہنما۔ کہا جاتا ہے: رجل ھَدُوٌّ: رہنما مرد۔ الحمامُ الھَدِیّ: نامہ بر کبوتر۔ المَھْدِیّ (مفع): وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ حق کی طرف راہنمائی کرے، ہدایت یافتہ۔ المُھاداۃ: باہمی مصالحت۔

۲۔ ھَدَی یَھْدِی ھِدَاءً العروسَ إلی بعلھا: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔ ھَدَّی تَھْدِیَۃ الھَدِیَّۃ لفلان و الیہ: کو تحفہ دینا۔ ۔ العروسَ إلی بعلھا: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔ ـــ الشیءَ: کو جدا جدا کرنا۔ ھَادَی مُھَادَاۃً و ھِداءً ہٗ: ایک دوسرے کو تحفہ بھیجنا۔ ـــ فلانٌ فلانًا: اپنا اپنا کھانا لا کر ایک جگہ مل بیٹھ کر کھانا۔ أُھْدَی إِھْدَاءً العروسَ إلی بعلھا: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔ ۔ الھَدْیَ إلی الحَرَم: ہدی کا جانور حرم بھیجنا۔ ـــ لفلان (و إلی فلان کذا): کو تکریم کیلئے تحفہ بھیجنا۔ ـــ الشیءَ: کو جدا جدا کرنا۔ تھَادی تھَادیًا القومُ: ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجنا۔ کہا جاتا ہے: ھذا شیءٌ یُتَھادَی: یہ چیز وہ ہے جسے لوگ ایک دوسرے کو تحفہ کے طور پر بھیجتے ہیں۔ اِھْتَدَی اھتداءً العروسَ إلی بعلھا: دلہن کو اس کے شوہر کے پاس بھیجنا۔ اِسْتَھْدَی اِسْتِھْدَاءً الشیءَ: چیز کو بطور ہدیہ طلب کرنا۔ الھَدْیُ واحد ھَدْیَۃ: مکہ معظمہ بھیجی جانے والی قربانی (کا جانور)، صاحب عزت۔ الھَدِیّ دلہن، حرم کو بھیجی جانے والی قربانی (کا جانور)۔ اسیر، قیدی، صاحب عزت۔ الھَدِیَّۃ جمع ھَدَایَا و ھَدَاوَی و ھَدَاوٍ: الھَدِیّ کا مونث، دلہن، تحفہ۔ الھُدَیَّا: مثل۔ کہا جاتا ہے: لك عندی ھُدَیَّاھا: میرے پاس تمہارے لئے اس جیسی چیز ہے۔ المِھْدَاءُ: ہدیہ بھیجنے کا عادی۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ مِھْداء و امرأۃ مِھْدَاء: تحفہ بھیجنے کا عادی مرد یا عورت۔ المِھْدَی: وہ برتن جس میں ہدیہ بھیجا جائے مثلاً تھالی طبق وغیرہ۔ المُھْداۃ و المَھْدِیَّۃ: دلہن جو شوہر کے پاس بھیجی گئی ہو۔

⊙ ھَدَی -ھَدْیًا و ھُدًی و ھِدَایَۃً ہ: کو سیدھے راستے پر لیجانا، ۔ ہ ہ: کو راستہ دکھانا۔ کی رہبری کرنا۔ ـــ ہ إلی: کی تک رہبری کرنا، قیادت کرنا، کو کا راستہ دکھانا۔ ـــ ہ: کو سیدھے راستہ پر لیجانا۔ ـــ ہ: کو فراہم کرنا، مہیا کرنا، لانا، بہم پہنچانا، حاصل کرنا۔ ۔ ھِدَاءً ھا إلی: دلہن کو دولہا کے پاس لانا، لیجانا۔ ھَادَی ہٗ: کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرنا۔ أَھْدَی ھا إلی: دلہن کو دولہا کے پاس لانا، لیجانا۔ ـــ ہ ل/الی: کو کوئی چیز بطور تحفہ دینا، کو کا تحفہ دینا۔ ۔ ل/الی ہ: کو کا تحفہ بنانا۔ ۔ ہ ل/إلی: کو کی نذر کرنا، کو سے منسوب کرنا، کا سے انتساب کرنا۔ ـــ ہ (تمغہ وغیرہ) عطا کرنا، عنایت کرنا، مرحمت کرنا۔ ـــ ہ ہ: کو کچھ بھیجنا، ارسال کرنا۔ تَھَدَّی: صحیح راہ پر ہونا۔ ۔ إلی: تک پہنچنا۔ تَھادَی: ایک دوسرے کو تحفے دینا، تحائف کا تبادلہ کرنا۔ ـــ ہ: ایک دوسرے کے درمیان کسی چیز کا تبادلہ کرنا۔ ۔ التحیۃَ: تحیات کا تبادلہ کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، تسلیمات عرض کرنا۔ ۔ ہ: کی رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، کو لیجانا، لانا۔ ـــ: چلتے ہوئے جھومنا یا لہرانا، آگے پیچھے ہلنا، جھولنے یا لہرانے کے انداز سے چلنا، لمبے لمبے قدم اٹھانا، آگے کی طرف حرکت کرنا، آگے بڑھنا۔ ۔ إلی: تک پہنچنا، میں گھسنا، کے پاس گروہ کی شکل میں جانا، کے گرد جمع ہونا۔ اِھْتَدَی: سیدھے راستہ پر ہونا۔ ۔ إلی/لِ: تک لیجایا جانا، کا راستہ پانا، کو پانا، کا سراغ یا کھوج لگانا، کو دریافت کرنا، منکشف کرنا، کسی چیز تک اتفاقاً پہنچ جانا ـــ الی/لِ: (کوئی خیال وغیرہ) سوجھنا، ہاتھ لگنا، سے آگاہ ہونا، کے متعلق سوچنا، تک پہنچنا۔ ـــ إلی: سچے دین تک راستہ پانا، من: برائی سے دور۔ ـــ بـ: کسی سے راہنمائی کیا جانا، کسی شخص یا چیز کو مثال یا نمونہ کے طور پر لینا، کو اپنے لئے مشعل راہ بنانا، کے نقش قدم پر چلنا۔ اِسْتَھْدَی: صحیح رہنمائی طلب کرنا، خداوندی ہدایت کی دعا کرنا، صراط مستقیم تلاش کرنا، مانگنا، چاہنا۔ ھُدًی: رہنمائی، رہبری، ہدایت، طریقہ، سڑک، ارشاد، انداز،

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اسلوب، راستہ۔ هُــدًی: صحیح رہنمائی (مذہبی مفہوم میں) رہنمائی، رہبری، سیدھا راستہ، سچا دین۔ کــان علــی هُدی: صراط مستقیم پر ہونا، دین حق قبول کرنا، اختیار کرنا۔ علــی غیرِ هُدی: بلا مقصد، یونہی، بے سوچے سمجھے۔ ســار علــی غیرِ هُدی: بے مقصد، اِدھر اُدھر پھرنا۔ هَدْيَة و هِدْيَة: طرزِ عمل (کا طریقہ)، طریق کار، پالیسی، راستہ، سمت، رخ، طریقہ، انداز، اسلوب۔ هَـدِيَّة جمع هَــدَايا: تحفہ، عطیہ، ہدیہ، نذر، نذرانہ، قربانی۔ هِـدَايَة: رہنمائی، رہبری۔ عــلــی غیــر هــداية: الٰہی رہنمائی کے بغیر، بلا مقصد، یونہی، بے سوچے سمجھے۔ أَهْــدَی: بہتر رہنمائی یا رہبری کیا گیا، صحیح تر، مناسب تر، بہتر۔ إهــداء: پیشکش، عطیہ، گرانٹ، منظور کرنا، انعام، دان، بخشش، نوازش، انتساب، نذر، وقف تهديه، کتاب معنون کرنے کا مقدمہ۔ هَادٍ جمع هَــادُون و هُدَاة: رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا، راہنما، راہبر، پیش رو، راستہ دکھانے والا۔ مَهْدِيّ: صحیح راہنمائی کیا ہوا۔ مُهْتَدٍ: صحیح راہنمائی کیا ہوا۔

هذ: ا۔ هَــذَّ ـ هَــذًّا و هَــذَذًا و هُــذَاذَةً: کو کاٹنا، یا کو جلدی کاٹنا۔ ـــ الحدیثَ: بات بیان کرنا۔ ـــ بہ: کا عادی ہونا، کی لت لگ جانا۔ اِهْتَذَذْتُ الشيءَ: میں نے چیز کو جلد کاٹا۔ الهَذّ: بہت کاٹنے والا۔ اِزمیــل هَــذٌّ: تیز اور کاٹ دار چھینی، جب کسی کو کسی کام سے روکیں تو کہتے ہیں: هَــذَاذَيْك ـــ الهَذَّاذ: بہت کاٹنے والا۔ جــمــل هَــذَّاذٌ: آگے بڑھ کر چلنے والا اونٹ۔ شفرة هذاذة: کاٹنے والا چاقو۔

۲۔ الهَــذْهاذ و الهُذَاهِذ: تیز رفتار۔ ـــ من الــسیــوف: قاطع تلوار۔ قَرَبٌ هَذْهاذ: پانی تک رات کو جانے کا دور اور دشوار سفر۔ الهَــذَاهِذ: وہ لوگ جو ہر شخص کو دیکھ کر کہیں کہ وہ ان میں سے ہے اور ان کا خادم ہے۔

هذأ: هَذَأَ يَهْذَأُ هَذْءًا ہ: کو جلدی کاٹنا۔ ـــ العدوَّ: دشمن کو ہلاک کر دینا۔ ـــ فلاناً بلسانہ: کو زبان سے ایذا دینا، ناپسندیدہ باتیں سنانا۔ ـــ الکلامَ: لغو باتیں کرنا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا تکان سے گر پڑنا۔ هَذِئَ يَهْذَأُ هَذَأً من البرد: سردی سے ہلاک ہونا۔ تَهَذَّأَ ت القرحةُ: زخم کا خراب ہو کر پھٹ جانا۔ الْهُذَأَة: بلچھ، برچھا۔ سیف هُذَّاءٌ و هُذَاء: قاطع تلوار، کاٹنے والی تلوار۔

۲۔ هــذا: اسم اشارہ (ذا) اور تنبیہ (ها) سے مرکب لفظ۔ بمعنی یہ۔

ﭺ هذا م هذه وهذی جمع هــؤلاءِ تثنیـه هَذَان م هــاتــان: یہ۔ بهــذا: بذریعہ ہذا، اس کے ساتھ، مع هذا۔ لِهَذا: اس لئے، اس وجہ سے۔ مَعَ هذا: اس کے ساتھ، اس کے باوجود، پھر بھی، تاہم، بایں ہمہ۔ هــذا إلی أن: کے علاوہ، مزید برآں بھی۔ هــذا و: اس کے علاوہ، مزید برآں بھی، علاوہ ازیں، دوسری طرف۔ هذا و يُوْجَد اس کے علاوہ...... بھی ہے۔

هذب: ا۔ هَذَبَ ـ هَذْبًا الشجرَ وغیرہ: درخت وغیرہ کاٹ کر اور صاف کر کے درست کرنا۔ ـــ النخلةَ: کھجور کے درخت کی چھال اُتارنا۔ هَــذَّبَ الشــجــر وغیــره: درخت وغیرہ کاٹ اور صاف کر کے درست کرنا۔ ـــ الشِعرَ: شعر کی اصلاح کرنا۔ ـــ الرجلَ: کو پاکیزہ اخلاق والا بنانا۔ تَهَــذَّبَ: درست اور پاکیزہ ہونا، شائستہ اخلاق ہونا۔ ـــ الرجلُ: مہذب ہونا۔ الهَذَب: صفائی، خلوص۔ المُهَذَّب (مفع): پاکیزہ اخلاق والا، عیبوں سے پاک وصاف۔ کــلامٌ مُهَذَّبٌ او شِــعــرٌ مُهَذَّب: کلام یا شعر جس کی غلطیاں نکال دی گئی ہوں۔

۲۔ هَذَبَ ـ هَذْبًا الشيءُ: بہنا۔ ـــ هَذْبًا و هَذَابَةً: جلدی کرنا۔ هَذَّبَ: جلدی کرنا۔ هَــاذَبَ مُهَــاذَبَةً: جلدی کرنا۔ أَهْذَبَ جلدی کرنا۔ ـــ ت السحابةُ ماءَها: بادل کا جلدی سے پانی بہانا۔ فرسٌ هَذِب: تیز رفتار گھوڑا۔ ابــل مَهَــاذِيبُ (واحد مِهْذاب): تیز رفتار اونٹ۔ فــرسٌ او طــائــرٌ مُهَذَّبٌ: تیز رفتار گھوڑا یا پرندہ۔

۳۔ هَذَبَ ـ هَذْبًا و هَذَابَةً القومُ: قوم کا بہت شور مچانا۔

ﭺ هَذَبَ ـ هَــذْبًا ہ: کو تراشنا، چھانٹنا، حشو و زوائد سے پاک کرنا، کاٹ چھانٹ کر درست کرنا، سنوارنا، آراستہ کرنا، کو صاف کرنا، پاک کرنا، ہموار کرنا، کو چمکانا، مہذب بنانا، شائستہ کرنا، درست کرنا۔ هَــذَّبَ بمعنی هَذَبَ: نیز هَذَّبَ ہ: کو سدھارنا، بہتر کرنا، کی اصلاح کرنا، کو ترقی دینا، کو صاف کرنا، مصفا کرنا، نکھارنا، جلا دینا، چمکانا، کو درست کرنا، ٹھیک کرنا، کی اصلاح کرنا، ترمیم کرنا، کی خرابی یا غلطی دور کرنا، کی جانچ پڑتال کر کے اصلاح کرنا، کی تصحیح کرنا، پر دوبارہ غور کرنا، کو جانچنا، کا جائزہ لینا، کی تنقیح کرنا۔ ـــ ہ: بچہ کی تربیت کرنا، کسی کو تعلیم دینا، سکھانا پڑھانا، آگاہ کرنا۔ تَهَــذَّبَ هَذَّبَ کا فعل مجہول معنی کے لحاظ سے۔ تَهْذِيب: پاکیزگی، شستگی، قابل اعتراض باتوں سے کتاب کی صفائی، سدھار، درستی، ترمیم، تصحیح، اصلاح، تلافی، نظر ثانی، اصلاح مکرر، تربیت، تعلیم، [illegible] ترقی [illegible] تعلیم سے متعلق، تعلیمی، سبق آموز، مصلحانہ، پراز معلومات، نصیحت آمیز، ہوش افزا، پند آمیز، عبرت خیز۔ تَهَــذُّب: تربیت، تعلیم، تمیز، تہذیب، شائستگی۔ مُهَــذِّب: استاد، معلم۔ مُهَــذَّب: باتہذیب، اچھی تربیت والا، شائستہ، بااخلاق، مہذب، تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، باتمیز، باسلیقہ، خلیق، خوش اخلاق، متواضع۔ مُتَهَذِّب: بمعنی مُهَذَّب۔

هذر: ا۔ هَذَرَ ـ هَــذْراً و تَهْــذاراً الرجلُ فی کلامه: بکواس کرنا۔ هَذِرَ ـ هَذَراً کــلامُــهُ: کلام کا بیہودہ ہونا، باطل ہونا۔ أَهْــذَرَ فــی مــنطقه وفی کلامه: بکواس کرنا۔ الهَــذَر (مص): بکواس، بیہودہ گفتگو۔ رجلٌ هَــذِرٌ و هَــذُرٌ و هُذَرَةٌ و هُذَّرَةٌ و هَذّارٌ و هَيْذَرٌ و هَيْذَارَةٌ و مِهْذَرٌ و مِهْذَرَةٌ: بکواس کرنے والا، ہذیان بکنے والا، بیہودہ گفتگو کرنے والا۔ امــرأة هَــذِرة و هَيْذَرَةٌ: بکواس کرنے والی عورت۔ رجلٌ هِــذْرِيَــانٌ: بکواس کرنے والا مرد، جلدی بولنے والا، چست۔ رجلٌ مِهْذَارٌ: بکواس کرنے والا مرد، بیہودہ گفتگو کرنے والا۔ امرأةٌ مِهْذَارٌ: بکواس کرنے والی عورت۔

۲۔ هَذَرَ ـ هَذْراً الیومُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ یومٌ هَاذِرٌ: سخت گرم دن۔

۳۔ هَــذْرَبَ: تیزی سے گفتگو کرنا۔ الهُــذْرُبَــانُ: جلدی بولنے والا، چست۔ الهُذْرُبَی: عادت۔

۴۔ هَذْرَفَ: جلدی کرنا۔ الهُذْرُوف جمع هذاریف: تیز رفتار۔

۵۔ هَــذْرَمَ هَذْرَمَةً: زیادہ بولنا، جلدی جلدی پڑھنا یا بولنا۔ ـــ الرجلُ فی کلامه: کلام میں گڑبڑ کرنا۔ الهَذْرَمَة (مــص): تیز رفتاری جلدی جلدی چلنا۔ الهِــذْرام: بہت باتونی۔ رجلٌ هِذْرام: بہت باتونی مرد۔ الهُذارم والهُــذَارِمة: جلدی جلدی پڑھنے یا بولنے والا، بہت باتونی۔ امرأةٌ هَذْرَمَی الصَخَب: بہت شور و شر والی عورت۔

ﭺ هَذَرَ ـ هَذْرًا: بک بک کرنا، بچوں کی طرح باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، بکنا، یاوہ گوئی کرنا، بیہودہ گوئی کرنا۔ ـــ ب: کو بے تامل کہہ دینا، پھوٹ پڑنا، بک دینا، یونہی بول اٹھنا، بے سوچے سمجھے کہہ دینا۔ هَذَّرَ: مذاق کرنا، دل لگی کرنا، چھیڑنا، فقرہ کسنا، طعن کرنا۔ هَــذْر: طفلانہ گفتگو، بکواس یا یاوہ گوئی، بے کار بات، ناکارہ گفتگو، تمسخر، تضحیک، طعنہ زنی، مذاق، لاحاصل کلام، چڑانا، مضحکہ اڑانا، طنز۔ هَــذِر: بک بک کرنے والا، بچوں کی طرح باتیں کرنے والا، بکواسی، گپی، باتونی۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

هَـذْرَمَ: بک بک کرنا، بکنا، بچے کی طرح بولنا، بیہودہ بکنا، مہمل بکنا، بچوں کی طرح باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، یاوہ گوئی کرنا، بے تکے پن سے کہنا۔

هذف: هَذَفَ -هُذُوفًا: جلدی کرنا۔ رَجُلٌ هَذِفٌ و هَذَّافٌ و مُهْذِفٌ: جلدی کرنے والا تیز و چست۔

هذل: ۱۔ أَهْذَلَ: کہا جاتا ہے: أَهْذَبَ فی مشیه و أَهْذَلَ: وہ تیز چلا۔ الهَاذِل: رات کا درمیان۔ الهُذْلُول جمع هَذَالِيل: ہلکا پھلکا آدمی، یا تیر یا بھیڑیا۔ لمبا سخت بدن کا گھوڑا، چھوٹا ٹیلہ، پانی کی چھوٹی ندی، باریک ریت، آفت، رات کا شروع یا بقیہ، پتلا بادل۔
۲۔ الهُذْلُوغ: موٹے ہونٹ والا۔ الهُذْلُوغة بدشکل۔
۳۔ هَذْلَمَ: تیز چلنا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔
○ هُذْلُول جمع هَذَالِيل: بلندی، ارتفاع، پہاڑی، ندی، چھوٹا چشمہ۔ خط هذلولی: شکل ہذلولی، قطعہ ہذلولی (hyperbola)۔

هذم: ۱۔ هَذَمَ -هَذْمًا الشیءَ: کو جلدی کاٹنا۔ ـــ الرجُلُ: جلدی جلدی کھانا، صفت هَاذِمٌ۔ الهُذَام: بہادر، کاٹنے والی تلوار۔ سنانٌ هُذَامٌ: تیز بھالا۔ شفرةٌ هُذَمَة و هُذَامَةٌ: جلدی کاٹنے والا چاقو، پھل (تلوار وغیرہ کا) یا بلیڈ۔ سِکّین هَذُومٌ: جلدی کاٹنے والی چھری۔ البهُذَم من السیوف: کاٹنے والی تلوار۔
۲۔ هَذْمَلَ: چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔

هذو: هَذَا يَهْذُو هَذْوًا هُ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا۔ ـــ فی الکلام: بیماری وغیرہ کی وجہ سے غیر معقول باتیں کرنا۔

هذی: هَذَى يَهْذِى هَذْيًا و هَذَيَانًا: بیماری وغیرہ کی وجہ سے غیر معقول باتیں کرنا، صفت: هَاذٍ۔ اسم: الهُذَاء۔ هَاذَى مُهَاذَاةً: سے یا آپس میں بکواس کرنا۔ کہا جاتا ہے: قَعَدَ يهاذی أصحابه: وہ بیٹھا ہوا ان کے ساتھ غیر معقول باتیں کر رہا تھا۔ أَهْذَى إهْذَاءَ اللحمَ: گوشت کو بہت گلانا۔ تَهَاذَى تَهَاذِيًا القومُ: گفتگو میں ہذیان کا استعمال کرنا۔ رجُلٌ هَذَّاءٌ و هَذَّاءَةٌ: بہت بکواسی۔
○ هَذَى -هَذْيًا و هَذَيَانًا: غیر معقول باتیں کرنا، بہکی بہکی باتیں کرنا، ہذیان بکنا، حواس باختہ ہونا، ہذیانی ہونا۔ هُذَاء: غیر معقول باتیں، ہذیان، ہذیان بکنا۔ هَذَيَان: بے معنی شور، بکواس یا بڑبڑ، بکواس، بے سروپا باتیں، ہذیان بکنا، احمقانہ باتیں، ہذیان، پراگندہ دماغی بے وقوفی، حماقت، احمقانہ حرکت، پاگل پن، جنون، دیوانگی، خبط، حد درجہ جوش، دھن، من بسا خیال، وہم، خیال باطل، فریب نظر۔ هَاذٍ: ہذیانی، ہذیان میں مبتلا، بدحواس، دیوانہ۔

هرّ: ۱۔ هَرَّ -هَرًّا و هَرِيرًا الشیءَ: کو ناپسند کرنا، کہا جاتا ہے: فلانٌ هَرَّهُ الناسُ: لوگ فلاں شخص کو دیکھنا اور اس سے معاملہ کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ ـ فی وجه السائل: سائل کے سامنے تیوری پر بل ڈالنا۔ ـ ت القوسُ: کمان سے آواز نکلنا۔ ـــ هَرًّا الشوكُ: کانٹے کا خشک اور سخت ہونا۔ ـــ هَرِيرًا الكلبُ: کتے کا ہلکی آواز میں بھونکنا۔ ـــ البَرْدُ الكلبَ: سردی کا کتے کو بھونکانا۔ ـ الكلبُ الضیفَ: کتے کا مہمان پر بھونکنا۔ ـــ هَرًّا: بد خلق ہونا۔ هَارَّ مُهَارَّةً هُ: کے سامنے تیوری چڑھانا، منہ بگاڑنا۔ أَهَرَّ الكلبَ: کتے کو بھونکانا۔ اسی سے مثال ہے: شرٌّ أَهَرَّ ذاناب: بڑے شر نے کتے کو بھونکایا۔ ـــ بالغنم: بکریوں کو پانی پر بلانا یا گھاٹ پر لے جانا۔ الهَارُّ (فا): دانت نکالنے والا کتا۔ الهِرّ: ناپسندیدگی، نفرت، کراہت، اونٹ کے ہانکنے یا پانی پر بلانے کی آواز۔ ـ جمع هِرَرَة مادہ هِرَّة جمع هِرَرٌ (ح): بلا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہر کا اطلاق نر و مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ مونث پر ھاء داخل کرتے ہیں۔ مادہ کی تصغیر هُرَيْرَه ہے۔ لا یعرف هِرًّا من بِرٍّ: اسے دوست دشمن کی تمیز نہیں۔ الهُرُّ (ح): شیر، بہت دودھ اور پانی۔ الهَرّ (مص): اونٹوں کو ڈانٹنے کی ایک قسم۔ اجد فی وجهه هِرَّةً و هَرِيرَةً: میں اس کے چہرہ میں کراہیت پاتا ہوں۔ الهَرَّار: مبالغہ کا صیغہ۔ کتا (دانت نکالنے والا)، هَلَكَ مَن لا هَرَّار له: وہ شخص ہلاک ہوا جس کے دشمنوں کو اس سے دور رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ الهَرَّاران (فلك): دو ستارے النسر الواقع اور قلب العقرب۔ دسمبر اور جنوری۔ الهَرِير (مص): کتے کی آواز (نباح سے کم)، غراہٹ۔ کہا جاتا ہے: أدبر غريرهٌ و اقبل هريرهُ: یہ ضرب المثل اس شخص کے لئے ہے جو بوڑھا اور بد خلق ہو۔
۲۔ هَرَّ -هَرًّا بسلحه: لید کرنا، پاخانہ کرنا۔ الدواءُ سَلْحَهُ: دواء کا دست لانا، پاخانہ آور ہونا۔ ـــ هَرًّا و هُرَارًا سَلْحُهُ: دستوں سے مرجانا۔ ـ تِ الابلُ: اونٹوں کا هُرار کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ الهُرار: اونٹ کی بیماری اسہال۔ الهُرُور: زمین پر گرے ہوئے انگور۔ المَهْرُور (مفع): هُرار (اسہال) کی بیماری میں مبتلا۔
۳۔ هَرْهَرَ هَرْهَرَةً الضأنُ: بھیڑ کا آواز نکالنا۔ ـ الرجُلُ: بے فائدہ ہنسنا۔ ـــ الشیءَ: کو ہلانا۔ ـــ بالغنم او الابل: بکریوں یا اونٹوں کو پانی پر بلانا، گھاٹ پر لیجانا۔ ـــ علی فلان: پر زیادتی کرنا، تعدی کرنا۔ ـــ و تَهَرْهَرَتِ الريحُ: ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ الهَرْهَرَه (مص): جنگ میں اونٹوں کی آوازوں کی نقل، بھیڑوں کی آواز۔ هَرْهَرَةُ الأسد: شیر کی دھاڑ کی گونج۔ الهُرَاهِر جمع هَرَاهِر (ح): شیر، بہت پانی اور دودھ۔ الهُرْهار: بہت پانی اور دودھ۔ (ح): شیر، بے ہودہ ہنسنے والا۔ الهُرْهُور: بہت پانی اور دودھ، آواز دینے والا جاری پانی، ایک قسم کی کشتی۔ الهِرهِير (ح): ایک قسم کی مچھلی۔ (ح): ایک خبیث قسم کا سانپ۔
۴۔ الهِرهِر: بوڑھی بکری۔ الهُرْهُرَة: انگور کی بیل کی جڑ میں گرے ہوئے انگور۔ الهُرهَار: دبلا گوشت۔ الهُرهُور: گرے ہوئے انگور، بوڑھی بکری۔
○ هَرَّ -هَرِيرًا: غرانا، ریں ریں کرنا، جھینکنا۔ هِرّ جمع هِرَرَة: بلا، بلی، جوان بلا، جوان بلی۔ هِرَّة جمع هِرَر: بلی۔ هَرِير: غرانا، غراہٹ، بھونکنا، جھینکنا، ریں ریں، ریں ریں کرنا، بھنکارنا۔ هُرَيْرَة: بلی کا بچہ۔

هرأ: ۱۔ هَرَأَ -هَرْأً يَهْرَأُ هَرْءًا فی منطقه: فحش اور بیہودہ کلام کرنا۔ أَهْرَأَ إهْرَاءً الکلامَ و فی الکلامِ: بہت بے ہودہ کلام کرنا۔ الهُرَاء: بے ہودہ کلام، بے ترتیب گفتگو۔ ـــ و الهُرْأ: بہت بولنے والا، بیہودہ بکنے والا۔ امرأةٌ هُرَاءَةٌ و هُرَأَةٌ: بہت بولنے والی، بیہودہ گو عورت۔
۲۔ هَرَأَ يَهْرَأُ هَرْءًا و هَرَاءَةً البردُ فلانًا: سردی کا کسی کو قریب بہلاکت کر دینا، یا ہلاک کر دینا۔ ـ تِ الریحُ: ہوا کی سردی کا شدید ہونا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو بہت پکانا۔ هَرِئَ هَرْءًا و هُرَاءًا و هُرُوءًا اللحمُ: گوشت کا بہت پکا ہوا ہونا۔ هُرِئَتِ المواشیُ: مویشیوں کا گرمی یا سردی سے مرنا۔ صفت: مَهْرُوءَةٌ۔ هَرَّأَ تَهْرِئَةً البردُ الماشیةَ: سردی کا مویشی کو نڈھال کر دینا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو اس قدر گلانا کہ ہڈی چھوڑ دے۔ أَهْرَأَ إهْرَاءً هُ البردُ: کو ہلاک کرنے یا ہلاکت کے قریب پہنچانے والی سردی پڑنا۔ ـــ فلانٌ فلانًا: کو قتل کرنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو بہت گلانا۔ تَهَرَّأَتِ الماشیةُ: مویشی کا سردی سے نڈھال ہونا۔ کہا جاتا ہے: هَرَّأَ البردُ الماشیةَ فتَهَرَّأَتْ: سردی نے مویشی کو نڈھال کر دیا تو وہ نڈھال ہوگیا۔ ـــ اللحمُ: گوشت کا گل کر بکھرنا۔ تَهَرَّأَ الثوبُ: کپڑے کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور بوسیدہ ہونا۔ الهِرَاء: درخت خرما کا پودا۔ الهَرِئُ: پوری طرح گلا ہوا گوشت۔ الهَرِيئَة: هَرِئ کا مونث: سخت سردی کا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وقت۔ کہا جاتا ہے عدہ فرّةٌ لہا هَرِینة: یہ ایک سردی ہے جس سے مویشیوں اور انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور موت واقع ہوتی ہے۔ المُهْرَأ (مفع): پکا ہوا گوشت۔

ⓒ هَرَأَ - هَرْأً ہ: کو چیرنا، پھاڑنا، چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پرخچے اڑانا، (لباس) کو خستہ کر دینا — ہ: پر بہت اثر کرنا، کو نقصان پہنچانا، تھکا دینا، کو تکلیف پہنچانا — ہ: (کھال۔ جلد) میں سوزش پیدا کرنا، (ہوا کا) سخت تکلیف دہ حد تک سرد ہونا۔ هَرَّأَ ہ: گوشت کو بہت زیادہ پکانا۔ اَهْرَأَ بمعنی هَرَّأَ۔ تَهَرَّأَ: گوشت کا بہت پک جانا، چرنا، پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پرخچے اڑنا۔ اِهْتَرَأَ: پھٹنا، چرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ستیاناس ہو جانا، بوسیدہ ہونا، پھٹا پرانا ہونا، فرسودہ ہونا۔ هُرَاء: بچوں کی سی باتیں، بک بک، ناکارہ گفتگو۔ مُهْتَرِئ: بہت پکا ہوا، ابالنے میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا گوشت، پھٹا ہوا، چرا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوا، بوسیدہ، فرسودہ، پھٹا پرانا۔

هرب: ا۔ هَرَبَ - هَرَبًا و هُرُوبًا و مَهْرَبًا و هَرَبَانًا: فرار ہونا، بھاگ جانا — فی مشیہ: تیز چلنا — فی الارض: دور تک جانا — فی الأمر: کام میں سخت مشغول ہونا۔ هَرِبَ - هَرَبًا الرجُلُ: بوڑھا ہونا۔ هَرَّبَ ہٗ: کو بھگا دینا — الاشیاءَ الممنوعةَ: ممنوعہ چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں سمگل کرنا۔ اسم التهریب: غیر قانونی درآمد برآمد، سمگلنگ (smuggling)۔ اَهْرَبَ الرجُلُ: گھبرا کر یا بغیر گھبراہٹ کے بھاگنے کی کوشش کرنا، دور تک جانا — فلانٌ فلانًا: فلاں کا فلاں کو بھاگنے پر مجبور کرنا — ت الریحُ: ہوا کا مٹی اڑانا — الرجُلُ: کسی کام میں مشغول ہونا۔ تَهَارَبُوا: ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھاگنا۔ الهَارِب فا: کہا جاتا ہے مالهُ هاربٌ ولا قارِبٌ: نہ کوئی اس سے بھاگنے والا ہے نہ قریب آنے والا ہے۔ یعنی وہ کچھ بھی نہیں۔ یا نہ تو پانی سے نکلنے والا ہے اور نہ پانی لینے آنے والا۔ مراد اس کے پاس کچھ نہیں۔ هارِبُ الماءِ عند الزرّاعین: پانی کی نالی جو نہر سے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ المَهْرَب (مص): بھاگ کر جانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے فلانٌ لنا مَهْرَبٌ: ہم سختی پر فلاں شخص کے پاس بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔

۲۔ الهَرْبَذَة: آہستہ چال۔ الهَرَابِذَة: واحد هِرْبِذ (فارسی): ہندوؤں کے بڑے لوگ یا ان کے پنڈت، آتش پرستوں کی آگ کے خادم۔

۳۔ الهُرْبُع جمع هَرَابِع: چست و چالاک چور یا بھیڑیا۔

ⓒ هَرَبَ - هَرَبًا و هُرُوبًا و مَهْرَبًا و هَرَبَانًا اِلی: کو بھاگنا، فرار ہونا — من: سے بچ نکلنا — مع: کے ساتھ بھاگ جانا، نکل جانا۔ هَرَبَ: (فوجی یا بحری نوکری) چھوڑ کر بھاگ جانا۔ هَرَّبَ ہٗ: کو فرار ہونے میں مدد دینا، کو فرار ہونے پر مجبور کرنا، کو بھگا دینا، فرار کرا دینا، (قیدی) کو آزاد کرنا، چھڑانا — ہ: (قرق کیا ہوا مال یا ضبط شدہ مال) کو چھڑانا۔ هَرَّبَ: ناجائز تجارت میں مشغول ہونا، ناجائز تجارت کرنا، غیر قانونی درآمد یا برآمد کرنا، سمگل کرنا، سمگلنگ کرنا۔ تَهَرَّبَ من: سے بچ نکلنا، سے گریز کرنا، بچنا، (فرض و محصول وغیرہ) سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، گریز کرنا، بچنا، ادھر ادھر ہٹنا، بچ نکلنا، کو ٹال جانا، پی جانا۔ هَرَب: فرار، نجات، چھٹکارا، (فوجی نوکری) چھوڑ کر بھاگ جانا، روپوشی، عاشق کے ساتھ فرار۔ هُرُوب: فرار۔ هَرْبان: مفرور، بھاگا ہوا، بھاگ جانے والا، بھاگتا ہوا، پناہ گیر، پناہ گزین، مہاجر۔ هَرَّاب: بزدل۔ مَهْرَب جمع مَهَارِب: (جائے) پناہ، کنج عزلت، کمین گاہ، جائے امن فرار، بھاگ جانا۔ لا مَهْرَبَ منه: جس سے گریز ممکن نہ ہو، جس سے مفر نہ ہو، ناگزیر، مجبوری (کی بات)۔ تَهْرِیب: ناجائز تجارت، سمگلنگ، غیر قانونی درآمد و برآمد، ممنوع تجارت۔ هَارِب: بھگوڑا، بھاگنے والا، مفرور، بھاگتا ہوا، پناہ گیر، پناہ گزین، فرار ہو جانے والا۔ مُهَرِّب: ناجائز کاروبار کرنے والا، سمگلر (غیر قانونی درآمد برآمد کنندہ)۔ مُهَرَّب جمع مُهَرَّبات: ناجائز طور پر درآمد یا برآمد کیا ہوا مال، سمگل شدہ مال، ممنوع مال۔

هرت: هَرَتَ - هَرْتًا ہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا — الثوبَ: کپڑا پھاڑنا — عِرضَ فلان: کی عزت خراب کرنا — اللحمَ: گوشت کو بہت گلانا۔ هَرِتَ - هَرَتًا الشیءُ: وسیع اور کشادہ ہونا۔ هَرَّتَ تهریتًا الشیءَ: کو وسیع اور کشادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے هَرَّتَ شدقَهُ: اس نے اپنی باچھیں چوڑی کیں، اس نے منہ کھولا۔ اَهْرَتَ اللحمَ: گوشت کو بہت گلانا۔ الهَرِت و الهَرَّات و الهَرُوت (ح): شیر۔ الهَرِیت: وسیع، چوڑی باچھوں والا۔ (ح): شیر: راز فاش کرنے والا، بدزبان۔ الاَهْرَت: چوڑی باچھوں والا۔ کہا جاتا ہے اسدٌ اَهْرَتُ و اُسُودٌ هُرْتٌ: چوڑی باچھوں والا شیر، چوڑی باچھوں والے شیر۔ المُتَهَارِت: چوڑی باچھوں والا کوہی (؟) الفم (؟)

شیر۔ کلابٌ مُهَرَّتةُ الاشداق: چوڑی باچھوں والے کتے۔ اسدٌ مُتَهَرِّتُ الشدق: چوڑی باچھوں والا شیر۔ کہا جاتا ہے هو مَهْرُوت الفم جمع مَهَارِیت: وہ چوڑی باچھوں والا ہے۔

هرث: ا۔ الهِرْث: بوسیدہ کپڑا۔

۲۔ الهَرْثَم و الهُرَاثِم (ح): شیر۔ الهَرْثَمَة: کتے کے نتھنوں کے درمیان کی سیاہی۔ (ح): شیر۔

هرج: ا۔ هَرَجَ - هَرْجًا الناسُ: لوگوں کا فتنہ و فساد میں پڑنا — فی الحدیث: بے جوڑ اور بہت گفتگو کرنا — الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ هَرِجَ - هَرَجًا الرجُلُ: گرمی یا چلنے سے سانس چڑھنا۔ هَرَّجَ النبیذُ فلانًا: نبیذ کا کسی کو مست کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں هَرَّجَ فی الحدیث: گفتگو میں مزاح کرنا، ہنسانے والی باتیں کرنا، ایسے شخص کو مُهَرِّج کہا جاتا ہے — بالسبع: درندہ کو چلا کر ڈانٹنا۔ تَهَارَجَ القومُ: ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ اِنْهَرَجَ فلانٌ من النبیذ: نبیذ سے مست ہونا۔ اِسْتَهْرَجَ لهُ الرأیُ: کی رائے کا مضبوط اور وسیع ہونا۔ الهَرْج (مص): فتنہ و فساد۔ الهِرْج: احمق، ہر کمزور چیز۔ الهِرْجَة جمع هِرَج: هَرَج کا اسم نوع، نرم کمان۔ الهَرَّاج: مبالغہ کا صیغہ۔ فرسٌ هَرَّاجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔ الهَرَّاجَة: هَرَّاج کا مونث، بے جوڑ اور بہت باتیں کرنے والی جماعت۔ فرسٌ مِهْرَجٌ و مِهْرَاجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔

۲۔ هَرَجَ - هَرْجًا البابَ: دروازہ کو کھلا چھوڑ دینا۔

۳۔ الهِرْجاب و الهِرْجَبُّ جمع هَرَاجِیب: لمبا انسان وغیرہ۔

۴۔ الهَرْجَع: لمبا اور لنگڑا۔

۵۔ هَرْجَلَ: لڑکھڑاتے ہوئے چلنا، لمبے لمبے قدم ڈالنا۔ الهَرَاجِیل: لمبے لوگ موٹے اونٹ۔ الهُرْجُل جمع هَرَاجِل: لمبے لمبے ڈگ بھرنے والا۔

ⓒ هَرَجَ - هَرْجًا: برانگیختہ ہونا، بھڑکنا، مشتعل ہونا، جوش میں آنا، ہیجان میں آنا، ہل جل، افراتفری یا ہنگامہ میں پڑنا، بے کل اور بے قرار ہونا۔ هَرَّجَ ہٗ: کو مست و مخمور کرنا، کے حواس مختل کر دینا، کو بہکا ہوا کر دینا، کو گھبرا دینا، چکرا دینا، کے ذہن یا شعور پر گھٹا کا چھا جانا، کہر کا چھا جانا، کے ذہن یا شعور کو دھندلا کر دینا — فی: (گفتگو میں) مذاق کرنا، دل لگی کرنا، فقرے کسنا۔ هَرْج: برانگیختگی، ہیجان، گڑبڑ، کھلبلی، شورش، ہلچل، افراتفری، ہنگامہ، انتشار، پراگندگی، ابتری، بدنظمی، شور، فتنہ فساد، بے ترتیبی گڑبڑ، الجھن۔ هَرْجٌ و مَرْجٌ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

افراتفری، پراگندگی، الجھن، ہل جل، کھلبلی، ہنگامہ، پریشانی، اضطراب، ابتری، سخت بدنظمی، خلل، اختلال۔مُهَرِّج: مسخرا، بھانڈ، نقال۔هَرْجَلَة: بدنظمی، ابتری، گڈمڈ، الجھن، افراتفری، پراگندگی۔

هرد: ۱۔هَرَدَ۔هَرْدًا ہٗ: کو پھاڑنا، چیرنا۔۔ الشیءَ: پر قادر ہونا، کوخراب کرنے کیلئے پھاڑنا۔۔۔ اللحمَ: گوشت کو اس قدر گلانا کہ وہ بکھر جائے۔۔۔ عِرضَهٗ: کی آبروریزی کرنا۔هَرِدَ۔هَرَدًا اللحمُ: گوشت کا پک کر ریزہ ریزہ ہونا۔هَرَّدَ: زرد رنگ کا کپڑا (لباس) پہننا۔۔ اللحمَ: گوشت کو اس قدر گلانا کہ وہ بکھر جائے۔الهِرد: نکما آدمی۔الهُرْد (ن): زعفران، سرخ مٹی، ایک قسم کی جڑیں جن سے کپڑے زرد رنگے جاتے ہیں۔الهَرْد (مص): فتنہ وفساد۔الهِرْدَی و الهِرْدَاء (ن): ایک پودا۔الهُرْدِیّ: ھُرد سے رنگا ہوا۔رجلٌ اُهْرُدُ الشدق: چوڑی باچھوں والا مرد۔الهَرِید: خراب ہو کر پھٹا ہوا۔المَهْرُود: زرد رنگ کا لباس جو ھُرد سے رنگا گیا ہو۔

۲۔کہا جاتا ہے هَرَادَ الشیءَ یُهَرِیدُهٗ هِرَادَةً: اراد الشیء یریدہ ارادۃً کے معنی میں ہے۔کو حاصل کرنا چاہنا

۳۔الهِرْدُ (ح): شترمرغ۔

۴۔هَرْدَبَ هَرْدَبَةً: سست دوڑنا۔الهَرْدَبَّة: بڑھیا، بزدل، بڑے پیٹ والا۔

۵۔هَرْدَجَ الرجلُ: تیز چلنا۔

☆ هَرْدَبَشْت (هُرْدُبَشْت): بےمعنی باتیں، مہمل خیالات، لغویات، نکمی چیز، ردی چیز، الا بلا، کوڑا کرکٹ، خس وخاشاک، آخور، پرانا یا ناکارہ سامان۔

هرز: هَرَزَ۔هَرْزًا ہٗ: کو زور سے چھونا۔۔ ہٗ: کو لکڑی سے مارنا۔هَرِزَ۔هَرَزًا و هُرُوزًا: ہلاک ہو جانا، مر جانا۔تَهَرَّزَ من الجوع: بھوک سے ہلاک ہونا۔

هرس: ۱۔هَرَسَ۔هَرْسًا الشیءَ: کو خوب کوٹنا۔۔ الطعامَ: کھانا بہت کھانا۔هَرِسَ۔هَرَسًا: پیٹو ہونا، چھپا کر کھانا۔الهِرْس (ح): بلی، بلا۔الهِرْس م هِرْسَة (ح): بلا (ح): بڑا خونخوار شیر، پرانا کپڑا۔هَرَاسَةُ القومِ: قوم کی عزت اور ان کا سخت حملہ۔کہا جاتا ہے لبنی فلان هَرَاسَة: فلاں قبیلہ والوں کی بڑی دھاک ہے، جس کی وجہ سے وہ دشمن کو کچل ڈالتے ہیں۔الهُرَاس (ح): بڑا خونخوار شیر۔الهَرَّاس: صیغہ مبالغہ، بڑا خونخوار شیر، ہریسہ پکانے والا، ہریسہ بیچنے والا۔الهَرِیس: خوب اچھی طرح کوٹا ہوا۔۔۔ والهَرِیْسَة (ط): ایک قسم کا کھانا جو گوشت اور گندم کو کوٹ کر بنایا جاتا ہے۔الأهْرَس: سخت وزنی۔(ح) بڑا خونخوار شیر۔رجلٌ مِهْرَسٌ: پیٹو۔المِهْرَاس جمع مَهَارِیس: ہاون، اوکھلی، بہت کھانے والا اونٹ، بھاری جسم کا اونٹ، رات کو چلنے میں نڈر۔

۲۔مکانٌ هَرِسٌ م هَرِسَة: جگہ جہاں بڑے بڑے کانٹے دار درخت اُگے ہوئے ہوں۔الهَرَاس: واحد هَرَاسَة: بڑے بڑے کانٹوں والے درخت۔

☆ هَرَسَ۔هَرْسًا ہٗ: کو پیسنا، کچلنا، ابال کر کچلنا، کا گودا نکالنا، کو نچوڑنا، زخمی کرنا۔(گوشت) کو پیس کر نرم کرنا۔هَرِیسَة: آٹے پگھلے ہوئے مکھن اور چینی سے بنائی ہوئی مٹھائی۔هَرَّاس جمع هَرَّاسات: سٹیم رولر، steam roller جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔آلةٌ هَرَّاسة: سٹیم رولر۔مِهْرَاس جمع مَهَارِیس: ہاون، کونڈی، کھرل۔

هرش: ۱۔هَرَشَ۔هَرْشًا الدهرُ: زمانہ کا سخت ہونا۔هَرِشَ۔هَرَشًا: بدخلق ہونا۔هَرَّشَ بین الکلاب: کتے لڑانا۔۔۔ بین الناس: لوگوں میں فساد ڈالنا۔هَارَشَ مُهَارَشَةً و هِرَاشًا بعض الکلاب علی بعضها: کتوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔۔ فلانٌ فلانًا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا۔تَهَارَشَ و اهْتَرَشَ تِ الکلابُ: کتوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔الهَرِش: اکھڑ، ظالم۔الهِرَاش (مص): جھگڑا، لڑائی۔المُهَارِش: فا: فرسٌ مُهارِشُ العنان: مطیع گھوڑا۔

۲۔تَهَرَّشَ الغیمُ: بادل کا کھل جانا۔

۳۔هَرْشَفَ و اهْرَشَفَ تِ الهِرشَفَّة: دوات کی صوف کا سوکھ جانا۔تَهَرْشَفَ الماءَ: پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینا۔الهِرْشَف: بہت بوڑھی۔۔ من الرجال: دبلا بوڑھا، بہت پینے والا۔الهِرْشَفَّة: بہت بوڑھی عورت، بوڑھی اونٹنی، دوات کا سوکھا ہوا صوف۔

☆ هَرَّشَ بین: کے درمیان نااتفاقی کا بیج بونا۔هَارَشَ ہٗ: کے ساتھ جھگڑنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، کے ساتھ جی بہلانا، کھیلنا، کلول کرنا، مذاق کرنا، دل لگی کرنا، کو چھیڑنا، سے چھیڑ خانی کرنا۔هَرْش: نوچنا، کھرچنا، چھیلنا، ناخن مارنا، پنجہ مارنا، گھسنا، فرسودگی، گھسان، رگڑ، (اوزان، مشینوں کی) ٹوٹ پھوٹ کی منہائی۔هِرَاش: جھگڑا، لڑائی۔مَهْرُوش: مار مار کر گرایا ہوا، صورت بگاڑا ہوا، تھکایا ہوا۔

هرص: هَرِصَ۔هَرَصًا: خشک کھجلی والا ہونا۔هَرَّصَ الرجلُ: گرمی سے خشک خارش کی وجہ سے کے بدن میں آگ سی لگنا۔الهَرَص (ح): کیڑے، خشک خارش۔الهَرِیْصَة: کھڑے پانی کا تالاب۔

هرض: هَرَضَ۔هَرْضًا الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔هَرِضَ۔هَرَضًا: خشک کھجلی والا ہونا۔هَرَّضَ: گرمی سے کھجلی لگنا۔

هرط: ۱۔هَرَطَ۔هَرْطًا عِرضَ فلان و فی عِرضه: کی آبروریزی کرنا۔۔۔ فی الکلام: بےجوڑ اور بیہودہ گفتگو کرنا۔تَهَارَطَا: ایک دوسرے کو گالی دینا۔

۲۔هَرِطَ۔هَرَطًا: بیماری یا خوف سے گوشت کا ڈھیلا پڑنا۔الهَرْط (مص) جمع أهْرَاط و هُرُوط: بہت دبلا گوشت، متمول آدمی، دبلی بوڑھی بھیڑ۔ناقةٌ هِرْطٌ: بوڑھی اونٹنی۔الهِرطَة جمع هِرَط: دبلی بوڑھی بھیڑ، بیوقوف، بزدل کمزور۔الهَیْرَط: نرم۔

۳۔الهَرْطَقَة عند النصاری: (نصاری کے نزدیک) دین میں بدعت، اس کی طرف نسبت کی صورت میں هَرْطُوقی۔اس سے فعل بنا کر کہا جاتا ہے هَرْطَقَهٗ فَهَرْطَقَ و تَهَرْطَقَ: اس نے اسے بدعتی بنایا تو وہ بدعتی ہو گیا۔(یونانی لفظ)

۴۔الهُرْطُمَان: واحد هُرْطُمَانَة (ز): ایک قسم کا غلہ۔گیہوں اور جو کی درمیانی قسم۔

☆ هَرْطَقَ: کافر ہونا، بدعتی ہونا۔هَرْطَقَة: کفر، بدعت۔هَرْطُوقِی جمع هَرَاطِقَة: کافر، بدعتی۔هَرَاطِقِی: کافر، بدعتی۔هُرْطُمَان: ایک قسم کی جئی۔

هرع: ۱۔هَرَعَ۔هَرَعًا الیه: اضطراب و عجلت میں کی طرف جانا۔هَرِعَ۔هَرَعًا الدمُ: خون کا تیزی سے بہنا۔۔۔ الرجلُ: تیز رفتار یا جلد رونے والا ہونا۔هُرِعَ الرجلُ: چلنے میں جلدی کرنا۔هَرَّعَ القومُ الرماحَ: نیزوں کو سیدھا کر کے چلنا۔هُرِّعَ الرجلُ: چلنے میں جلدی کرنا۔أهْرَعَ الرجلُ: جلدی کرنا۔۔ القومُ رماحَهم: نیزے سیدھے کر کے چلنا۔أهْرِعَ الرجلُ: کم عقل ہونا، جلدی دوڑنا یا جانا۔صفت مُهْرَع: (کہا جاتا ہے اقبل الشیخ یُهْرَعُ: بوڑھا پریشان دوڑتا آیا) غصہ، کمزوری، خوف یا ٹھنڈ سے کانپنا، لرزنا۔تَهَرَّعَ الیه: کی طرف جلدی کرنا۔۔ ت الرماحُ: نیزوں کا سیدھا ہونا۔اِهْتَرَعَ العودَ: لکڑی توڑنا۔اُسْتُهْرِعَ تِ الابلُ: اونٹوں کا حوض کی طرف دوڑنا۔الهَرِع: جلدی بہنے والا خون۔رجلٌ هَرِعٌ م هَرِعَة: جلد رونے والا، تیز رفتار آدمی۔الهَرَع (مص): پریشانی کا چلنا، تیز ہانکنا۔الهُرَاع: پریشانی اور جلدی میں چلنا، تیز ہانکنا۔الهَرِیعَة: چھوٹی شاخوں والا پودا۔المُهْرَع (مفع): حریص، لالچی۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

المَهْرُوع: دیوانہ، محنت ومشقت سے درماندہ۔

۲۔الهَرْعَة و الهَرَعَة (ح): جوں کی طرح کا ایک کیڑا، چھوٹی جوں یا بڑی جوں۔

۳۔الهَيْرَع: بزدل، کمزور، بہت گھبرانے والا، بے وقوف، متلون مزاج عورت۔ رِيحٌ هَيْرَعٌ: تیز چلنے والی ہوا۔ الهَيْرَعَة: چرواہے کی بانسری۔ اسے يراعة بھی کہتے ہیں۔ ريحٌ هَيرَعَةٌ: تیز چلنے والی ہوا۔

ⓒ هَرَعَ ـهَرَعًا و هُرِعَ يُهْرَعُ هَرَعًا الى: کی طرف یا پاس جلدی جانا، تیزی سے جانا۔ هُرِّعَ و اُهْرِعَ: جلدی جانا، تیزی سے جانا۔ هَرَع: دوڑ، جھپٹ، جلدی، پھرتی، تیزی، عجلت، جلد بازی، کھلبلی، بے تابی۔ هُرَاع: کھلبلی، بے تابی، جلد بازی، عجلت، تیزی، پھرتی، جلدی۔

هرف هَرَفَ ـهَرْفًا بفلان: کسی سے متعجب ہو کر اس کی بہت تعریف کرنا، بغیر جانے ہوئے تعریف کرنا۔ لا تَهْرِفْ بما لا تعرف: جس کو نہ جانو اس کی تعریف نہ کرو۔ ـــ تْهُ الريحُ: کو ہوا کا ہلکا پانا۔ ـــ السبعُ: درندہ کا آواز دینا جاری رکھنا۔

۲۔هَرَّفَ تَهْرِيفًا ت النخلةُ: درخت خرما کا وقت سے پہلے پھل دینا۔ القومُ اِلى الصلٰوة: نماز کی طرف جلدی کرنا۔ اَهْرَفَتِ النخلةُ: درخت خرما کا وقت سے پہلے پھل دینا۔ الرجُلُ: مال دار ہونا۔

ⓒ هَرَفَ ـهَرْفًا ب: کی بہت تعریف کرنا، بے جا تعریف کی بھرمار کرنا۔

هرق: ۱۔هَرَقَ ـهَرْقًا الماءَ: پانی گرانا۔ هَرَّقَ الماءَ: پانی گرانا (تشدید کثرت کیلئے)۔ کہا جاتا ہے: هَرِّقْ علٰی جمرك: اپنے غصہ کے انگارے پر پانی ڈالو یعنی غصہ ٹھنڈا کرو۔ هَرَاقَ يُهَرِيقُ هِرَاقَةً الماءَ: پانی گرانا، ڈالنا۔ اس کی اصل اراقةُ يريقه اراقةً ہے۔ همزہ ہاء میں بدل گئی ہے۔ هَرَاقَةً کی اصل هَرْيَقَةً ہے۔ دحرجہ کے وزن پر۔ اس بنا پر ہاء مضارع میں مفتوح آتی ہے۔ چنانچہ يُهَرِيقُهُ کہا جاتا ہے۔ جیسے يُدحرجه میں دال مفتوح ہوتی ہے۔ امر کا صیغہ هَرِقْ ہے جو اصل میں هَرْيِق ہے۔ دَحْرِج کے وزن پر۔ تثنیہ میں هَرِيقا اور جمع میں هَرِيقُوا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: کہا جاتا ہے: هَرْيقُوا عليكم اوّلَ الليل: وہ تمہارے پاس رات کے شروع میں اترے۔ کبھی ہاء اور ہمزہ کو متحد کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: اَهْرَاقَهُ يُهْرِيقُهُ اِهْرَاقَةً: اسی سے اسم الفاعل مُهْرِيق اور اسم المفعول مُهْرَاق و مُهَرَاق آتا ہے۔ اَهْرَقَ الماءَ: پانی گرانا، ڈالنا۔ تَهَارَقُوا: ایک دوسرے پر پانی گرانا، ڈالنا۔ اِهْرَوْرَقَ اِهْرِيرَاقًا الدمعُ والمطرُ: آنسو اور بارش کا بہنا۔ المُهْرَق جمع مَهَارِق: اُهرق کا اسم مفعول۔ المُهْرُقَان و المَهْرَقَان و المُهْرَقَان: سمندر۔ سمندر کا ساحل جہاں پانی آکر سمٹ گیا ہو اور کوڑیاں چھوڑ گیا ہو۔ مطرٌ مُهْرَوْرِقٌ: زور سے برسنے والی بارش۔

۲۔الهِرق: پرانا کپڑا۔ المُهْرَق جمع مَهَارِق: صحیفہ۔ سفید ریشم کا کپڑا جس کو گوند سے چکنا کر کے لکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ چٹیل بیابان، کپڑے یا کاغذ چکنے کرنے کا آلہ۔

۳۔هِرْقَل و هِرْقِل: چھلنی۔

ⓒ هَرَق ـهَرْقًا ه: کو بہانا، گرانا، ٹپکانا، پھینکنا، چھلکانا۔ اَهْرَق ه: کو قربان کرنا، کو بہانا، گرانا، ٹپکانا، پھینکنا، چھلکانا۔ مُهْرَاق: گرایا ہوا، چھلکایا ہوا، گرایا ہوا۔ مَهْرَقان و مُهْرَقان و مُهْرُقان: ساحل، سمندر۔ اِهْراق: گرانا، بہانا، ٹپکانا۔ اِهْرَاقُ الدِمَاء: قتل و غارت گری، خونریزی۔ مُهْرَق: گرایا ہوا، بہایا ہوا، ٹپکایا ہوا جمع مَهَارِق: چرم، چرمی کاغذ، مومی کاغذ۔ هِرَقل و هِرُقِل: هرقل (بازنطینی شہنشاہ) یونانی اسم ہرکولیس جس میں بلا کی طاقت تھی۔

هرك: هَرْكَلَ هَرْكَلةً: مٹک کر چلنا۔ الهَرْكَلَة: ناز و انداز کی چال۔ ـــ والهُرْكِلَة والهِرْكَلَة و الهِرْكَوْلَة والهِركيل: خوش اندام و رفتار یا موٹے سرین کی عورت۔ جملٌ او رجُلٌ هُرَاكِل: موٹا جسیم اونٹ یا آدمی۔ الهَرَاكِلَة، مفرد هِرْكَل: بڑی بڑی مچھلیاں۔ (ح): آبی کتے۔ موٹے سرین والے آبی جانور، سمندری لہروں کی جمع ہونے کی جگہ۔

هرل: الهَرَل: پہلے خاوند کا بیٹا۔

هرم: ۱۔هَرِمَ ـهَرَمًا و مَهْرَمًا و مَهْرَمَةً: بہت بوڑھا اور کمزور ہونا۔ صفت هَرِم جمع هَرِمُون و هَرْمَى م هَرِمَة جمع هَرِمَات و هَرْمَى۔ هَرَّمَهُ الدهرُ: کو زمانہ کا بوڑھا کرنا۔ ـــ فلانًا: کی تعظیم کرنا۔ کہا جاتا ہے جاء فلان يُهَرِّمُ علينا الامرَ او الخبرَ: فلاں شخص نے آکر معاملہ یا خبر کو بڑھا دیا اور اس کی قدر و قیمت سے بڑھ کر بیان کیا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا۔ اَهْرَمَهُ الدهرُ: کو زمانہ کا بوڑھا کرنا کمزور کرنا۔ تَهَارَمَ الرجُلُ: بوڑھا ہونے کا بہانہ کرنا۔ اِسْتَهْرَمَهُ: کو بوڑھا سمجھنا، بوڑھا پانا۔ الهَرْم واحد هَرْمَة (ن): ترشی لئے ہوئے ایک نمکین پودا۔ کہا جاتا ہے هو اذلُّ من هَرْمَةٍ: وہ هرمة سے زیادہ ذلیل ہے۔ اَهْرَام و هِرَام (ه): ایک مخروطی شکل کی عمارت جس کی کرسی خواہ مثلث و مربع شکل کی ہو خواہ کئی اضلاع کی۔ ارتفاعُ الهرمِ: هرم کی کرسی سے اس کی چوٹی کا بعد۔ هَرَم منتظم: کثیر الاضلاع کرسی والا هرم۔ عامدُ الهرم المنتظم او علوُّه المائل: هرم کی کرسی کے ایک ضلع سے اس کی چوٹی کا فاصلہ۔ جذعُ الهرم یا هرم ناقص و هرم مخروط: مخروط هرم، کٹے ہوئے سر والا هرم۔ الهَرِم: بہت بوڑھا۔ قَدَحٌ هَرِمٌ: ٹوٹا ہوا پیالہ۔ الهَرِمَة: هرم کا مؤنث۔ (ح): شیرنی۔ ابنُ هِرْمَةٍ: بڑھاپے کی آخری اولاد۔ الهَرْمِى: سوکھی لکڑی۔ المَهْرَمَة (مص): انتہائی بڑھاپا۔ المِهْرَمة جمع مَهَارِم: لکڑی جس پر گوشت تمباکو وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کئے جاتے ہیں۔

۲۔الهَرِم: نفس، جان، سمجھ۔ (کہا جاتا ہے انك لا تدری بما يُولَع هَرِمُكَ: تو نہیں جانتا کہ تیرا نفس اور سمجھ کس چیز کی دیوانی ہے)، عمدہ رائے۔ الهُرمان: سمجھ، عمدہ رائے۔ الهَرُوم: بد خلق شریر عورت۔

۳۔هَرْمَزَ هَرْمَزَةً الرجُلُ: کمینہ ہونا، خفیف سا چبانا۔ ساتھی سے چھپائی ہوئی بات بیان کرنا۔ اللقمةَ: لقمے کو چبا کر منہ میں پھرانا مگر نہ نگلنا۔ ـ ت النارُ: آگ کا بجھنا۔

۴۔هَرْمَسَ هَرْمَسَةً وجهُهُ: تیوری چڑھانا۔ الهَرْمَسَة (مص): لوگوں کا شور و غل۔ الهُرَامِس: آدم خور شیر۔ الهَرَامِسَة واحد هِرْمِس: علمائے نجوم (یونانی لفظ)۔ الهِرْمَاس: آدم خور شیر۔ (ح): چیتے کا بچہ۔ الهِرْمُوس: مضبوط رائے والا، تجربہ کار، چالاک۔ الهِرْمِيس: آدم خور شیر۔ (ح): گینڈا۔

۵۔اِهْرَمَّعَ اِهْرِمَّاعًا الرجُلُ: تیز چلنا، جلدی رو پڑنا، کہا جاتا ہے اِهْرَمَّعَتِ العينُ: آنکھ نے جلد آنسو بہائے۔ ـــ فی منطقه: بہت بولنا۔ ـــ اليه: کے سامنے بناوٹی رونا رونا۔ الهَرَمَّع: جلد رو پڑنے والا، چال میں تیزی و سبکی۔

۶۔هَرْمَلَ هَرْمَلَةً ه: کے بال اکھیڑنا۔ ـــ الشعرَ: بال اکھیڑنا، کاٹنا اور اس طرح پشم اور پر اکھیڑنا، کاٹنا۔ ـــ عملَهُ: کا کام خراب کرنا۔ ـ ت العجوزُ: بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہونا۔ ـــ الوبرُ: پشم (بال) گرنا۔ الهِرْمِل: بوڑھی عورت، بوڑھی اونٹنی۔ الهُرْمُول جمع هرامیل: بال جو سر کے کناروں پر رہ جاتے ہیں۔ نیز بالوں اور پشم کا وہ ٹکڑا جو سر کے کناروں پر رہ جائے۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

◌ هَرِمَ ـهَرَمًا و مَهْرَمًا و مَهْرَمَةً: بوڑھا اور سٹھیا ہوا ہو جانا، خستہ حال اور زار و نزار ہو جانا۔هَرَّمَ ہ: کا قیمہ کرنا، کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔هَـرَم: بڑھاپا، ضعف، پیری، درماندگی، خستہ حالی، کمزوری، کہن سالی، ضعیفی۔ هَـرَم جـمع اَهْـرام و اَهْـرامـات: مخروطی مصری مینار۔هَـرَمِـي: مخروطی مینار جیسا، مینار آسا، مخروطی۔ هَرِم: بوڑھا ضعیف، کہن سال، نحیف، خستہ حال، عمر رسیدہ۔هَـرْمَس: (چہرے کا) سنجیدہ ہونا، سخت ہونا، کڑا ہونا، اداس، دلگیر، ملول، افسردہ، سُونا یا بے رونق ہونا۔هَـرْمُـون جـمـع هَرْمُـونـات: ہارمون (Harmone): ایک مادہ جو غدودوں سے نکل کر خون میں شامل ہوتا ہے اور تحریک اعضاء کا باعث بنتا ہے۔

هـرن: هَـرْنَفَ هَـرْنَـفَةً: کمزور ہنسی ہنسنا، مسکرانا۔ المُهَرْنِفَة: رونے میں کمزور آواز والی عورت۔

◌ هَرْهَرَ ہ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ـ علی: پر حملہ کرنا۔

هرو: ا۔هَرَا يَهْرُو هَرْوًا و تَهَرَّى تَهَرِّيًا ہٗ: کو ڈنڈے سے مارنا۔الهِـرَاوَة جـمع هَـرَاوَى و هُـرِيّ و هِرِيّ: موٹا ڈنڈا۔

۲۔هَرَاة: خراسان کے ایک شہر کا نام۔نسبت کیلئے هَرَوِي: ہرات کا، ہرات کے متعلق۔الهَـرّاء: ہرات شہر کے کپڑے بیچنے والا۔

۳۔هَـرْوَل: تیز چلنا۔هَـرْوَلَة: تیز قدمی۔مُهَـرْوِل: تیز چلنے والا، تیز رفتار، جلدی میں۔

◌ هَرَا ـهَرْوًا ہٗ: کو بید سے مارنا، کو کوڑے لگانا، پیٹنا، چابک لگانا۔هِـرَاوَة جـمـع هَرَاوى: لاٹھی، بید، چھوٹا ڈنڈا، سپاہی کا ڈنڈا، ڈنڈا۔

هـرى: هَـرَى يَهْـرِي هَرْيًا ہٗ: کو ڈنڈے سے مارنا۔ هَـرَى الثـوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔اهـترى: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔هَـرَّى تَهْـرِيَةً الثـوبَ: کپڑے کو زرد رنگنا۔هَـارَى مُهَـارَاةً ہٗ: سے ٹھٹھا کرنا۔الهِراء: کھجور کا پودا۔الهُـرْي جمع أهراء: غلہ جمع کرنے کا مکان (لاتینی لفظ)۔

◌ هُرِي جمع أهراء: اناج کی کوٹھی۔هارٍ: لڑکھڑا کر چلنے والا، ڈانواڈول۔

هَزَّ: ا۔هَزَّ ـهَزًّا الشیءَ و بالشیءِ: کو ہلانا۔ـ من عِطفِ فلان: کو کام کے لئے ابھارنا۔ـ به السيرُ: سیر کی وجہ سے جلدی چلنا۔ــ هَـزِيزًا الابلَ: ہدی سے اونٹوں کو نشاط میں لانا۔ــ الکوکبُ: ستارہ کا ٹوٹنا۔هَـزَّزَ تَهْـزِيزًا ہٗ: کو حرکت دینا۔تَهَزَّزَ: ہلنا، حرکت کرنا۔اِهْتَزَّ: حرکت کرنا، ہلنا۔ــ تِ الإبلُ: ہدی خواں کی ہدی سے اونٹوں کا جھومتے ہوئے چلنا۔ ــ الماءُ فی جریانه: پانی کا جاری ہونا۔ــ اليه قلبُهُ: خوش ہونا۔کہا جاتا ہے هو يَهْتَزُّ للمعروف: وہ اچھے اعمال پر خوش ہوتا ہے۔ــ الکوکبُ فی انقضاضه: ستارہ کا جلدی ٹوٹنا۔ــ تِ الارضُ: زمین کا نباتات اگانا۔ــ النباتُ: پودوں کا لہلہانا اور دراز ہونا۔الهَزَّة: جھٹکا، صدمہ، لرزہ، حرکت۔امرأة هَـزَّةٌ: شرارت میں چست اور خوش ہونے والی عورت۔ جمع نساءٌ هَزّاتٌ۔ الهِزَّة: هزّ کا اسم نوع، ایک طرح کا ہلنا۔اونٹوں کی ایک چال کی قسم۔خوشی، چستی۔ خوش دلی کی فیاضی، ہانڈی کے ابلنے کی آواز، بادل کی گڑگڑاہٹ، گھن گرج کی گونج۔الهَـزَائِـز: سختیاں (اس کا واحد نہیں آتا)۔الهَـزِيـز (مص): بادل کی گڑگڑاہٹ، ہوا کی سائیں سائیں۔المَهَزّ و المَهَزَّة: حرکت۔

۲۔هَـزْهَزَ هَزْهَزَةً الشیءَ: کو ہلانا۔ـ ہٗ: کو مغلوب کرنا۔ تَهَزْهَزَ الشیءُ: ہلنا۔ـ اليه قلبی: پر دل کا خوشی سے اچھلنا۔الهَـزَاهِز: ہلا دینے والے فتنے۔کہا جاتا ہے فـلانٌ شَهِـدَ الهَـزَاهِزَ: فلاں شخص نے جنگیں اور سختیاں دیکھیں۔ماءٌ هَزَاهِز: ہلتا ہوا صاف پانی۔ الهُـزَاهِز: کثرت سے بہنے والا پانی۔کہا جاتا ہے: مـاءٌ هُـزَاهِز: ہلتا ہوا صاف پانی۔بعيرٌ هُزَاهِز: سخت آواز اونٹ۔الهَـزْهـاز: کثرت سے بہنے والا پانی۔سیفٌ هَـزْهَـاز: صاف اور چمکتی ہوئی تلوار۔ الهُـزْهُـز: کثرت سے بہنے والا پانی۔کہا جاتا ہے: مـاءٌ هُزْهُزٌ: صاف ہلتا ہوا پانی۔بِئرٌ هُزْهُزٌ: بہت گہرا کنواں۔عيـنٌ هُـزْهُـزٌ: بہت پانیوالا چشمہ۔ الهَزْهَزَة (مص): لوگوں کو ہلا ڈالنے والی آفتیں اور جنگیں۔کہا جاتا ہے شَهِـدَ فـلانٌ الهَزْهَزَةَ: فلاں شخص نے ہلا دینے والی آفتیں اور جنگیں دیکھیں۔

◌ هَزَّ ـهَزًّا ہ/ب: کو ہلانا۔ــ ہ: نیزہ یا تلوار کو گھمانا، لہرانا، حرکت دینا۔ــــ ہ: کو آگے پیچھے یا ادھر اُدھر ہچکولے دینا، ہلانا، کو لرزانا۔ــــ ہ: کو ہلانا، جھنجوڑنا، الٹ دینا، درہم برہم کرنا، جھلانا۔هَزَّ کَتِفَيْهِ: کندھے اچکانا۔هَزَّ رأسَهُ: سر کو آگے کو ہلانا، سر ہلانا۔هَزَّ ذَيْلَهُ: دُم ہلانا۔هَـزَّزَ ہ: کو ہلانا، گھمانا، لہرانا، حرکت دینا۔ تَهَـزَّزَ: متاثر ہونا، دھڑکنا، مشتعل ہونا، ہچکولے کھانا، الٹنا، اوندھا ہونا، زور سے ہلنا، جھنجھوڑا جانا، صدمہ سے دوچار ہونا، بھڑکنا، جھومنا، ڈگمگانا، ڈولنا، لہرانا، مڑنا، تھرتھرانا، گونجنا، جھولنا، آگے پیچھے حرکت کرنا۔اِهْتَـزَّ: بمعنی تَهَزَّزَ نیز اِهْتَزَّ: کانپنا، لرزنا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، متحرک ہونا، تھرانا۔ــ ل: سے متاثر ہونا، سے بہت متاثر ہونا، سے دل پر اثر ہونا، (اونٹ پر سوار کا) ہچکولے کھانا۔لانَهْتَزُّ لـه کثیرا: یہ بات ہمیں زیادہ متاثر نہیں کرے گی، امکان نہیں کہ یہ ہمیں پریشان کرے، یہ بمشکل ہمارے لئے دردِ سر پیدا کرے گی۔اِهْتَزَّ فرحًا: خوشی سے کانپنا۔اِهْتَزَّ اليه قلبُهُ: پر خوشی کے مارے پھولنا، پر خوشی میں آپے سے باہر ہونا۔هَـزَّة جمع هَزَّات: حرکت، ہل چل، کھلبلی، الٹ پلٹ کرنے کا عمل، گڑبڑ، شورش، افراتفری، ہنگامہ، بے کلی، بے قراری، جنبش، اشتعال، اضطراب، پریشانی، شورش، اینٹھن، کپکپی، تشنج، جھٹکا، دھوکا، ہچکولہ، دھچکا، ریل پیل، زبردست کوشش، حملہ، دباؤ، عزم، ہمت۔(برقی) صدمہ، ارتعاش۔اہتزازی حرکت، جھولنا، آگے پیچھے حرکت کرنا، تھرتھراہٹ، لرزہ، رعشہ، زلزلہ، لرزش۔هَـزَّة ارضية: زلزلہ، زلزلہ کا جھٹکا۔ هَزَّةُ السرور (الطرب، الفرح): پرمسرت یا پرانبساط جوش یا ہیجان، خوشی، سرور، سرمستی، ناقابل برداشت مسرت، وجد، جوش، کمال مسرت۔هِـزَّة: سرگرمی، خوش مزاجی، زندہ دلی، ولولہ، بشاشت، بہت خوشی۔هَـزَّاز: ہلنے والا، ہچکولے کھاتا ہوا، ہلتا ہوا، لڑھکتا ہوا، جھولتا ہوا، گھومتا ہوا، جنبش دینے والا آلہ۔ هَزِيز: (ہوا کی) سائیں سائیں، (گرج، گھن گرج کی) گڑگڑاہٹ۔مَهَزَّة: جوش، تحریک، حرکت، اضطراب

هزا: هَزَا يَهْزَا هَزءًا ہٗ: کو توڑنا۔ــ اِبِلَهُ: اونٹوں کو سردی سے مار ڈالنا۔ـــ زیدٌ: مرنا۔ــ راحلتَهُ: اونٹنی کو حرکت دینا، حرکت میں لانا۔هَزْءًا و هُزْءًا و هُزُوًّا و هُزُوءًا و مَهْزَاةً بفلان و منه: سے مسخری کرنا۔هَزِئَ ـهَزَأَ: مرنا۔ــ هَزْءًا و هُزْءًا و هُـزُوًّا و هُـزُوءًا و مَهْـزَاةً بفلان و منه: سے مسخری کرنا۔أَهْـزَأَ إِهْـزَاءً ا: سخت سردی سے تکلیف پانا۔ــ اِبِـلَهُ: اونٹوں کو سردی سے مارنا۔ــ ت به دابَّتُـهُ: کو جانور کا جلدی لیجانا۔تَهَـزَّأَ تَهَـزُّؤًا و تَهَـازَأَ تَهـازُؤًا و اسْتَهْـزَأَ إِسْتِهْزَاءً: ٹھٹھا کرنا۔ الهَـازِئُ فـا: کہا جاتا ہے هـذه مَـفَـازَةٌ هَـازِئَة بـالـرکب و هَزَّاءَةٌ بهم: یہ بیابان دشوار گزار ہے (گویا کہ جب سواریوں کو مشقت اور کمزوری لاحق ہو جاتی ہے تو بیابان ان سے ٹھٹھا کر رہا ہوتا ہے۔) غداة هازِئة: سخت ٹھنڈی صبح۔رجُل هُزْأة مرد جس پر ٹھٹھا کیا جائے۔کہا جاتا ہے هـو هُزْأَة بين الناس: لوگ اس پر ٹھٹھا کرتے ہیں۔رجُل هُزَأَة: لوگوں سے ٹھٹھا کرنے والا۔

◌ هَـزَا و هَزِيءَ ـهَـزْءًا و هُـزْءًا و هُـزُوءًا و

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مُهزَأَة ب/من: پر ہنسنا، کا مذاق اڑانا، کی ہنسی اڑانا، پر فقرے کسنا، پر پھبتی کسنا، کو چھیڑنا، کا منہ چڑانا۔ تَهَزُّأً و اِستَهزَأَ ب/من/علی: کا مذاق اڑانا، پر ہنسنا، کی ہنسی اڑانا۔ هَزء و هُزْء و هُزُءٌ: تضحیک، ہنسی، تمسخر، حقارت، توہین، تذلیل، مذاق، ہنسی اڑانا۔ هُزَنِيّ: مذاق اڑانے والا، تضحیک آمیز، نفرت آمیز۔ هُزْأة: اضحوکہ، ہدف استہزاء، نقل محفل، تمسخر کی چیز۔ هُزَأَة: مذاق کرنے والا، طنز کرنے والا، نفرت کرنے والا، حقارت کرنے والا۔ مَهزَأَة: استہزاء، تحقیر، مذاق، تمسخر، حقارت، نفرت، بیزاری، اہانت، توہین، تضحیک، طعنہ زنی، مذاق، مسخرا پن، طعنہ، آوازہ، حقارت کا تبسم۔ باستهزاء: مذاق سے، تمسخر سے، حقارت سے۔ هَازِئ: مذاق اڑانے والا، چڑانے والا، طنز کرنے والا۔ مُستَهزِئ: مذاق اڑانے والا، طنز کرنے والا، چڑانے والا۔

هزب: ۱۔هَزبَرَهُ: کو کاٹنا۔ الهِزبَر جمع هَزَابِر: موٹا، مضبوط، قوی، بہت سخت۔ و الهِزبَر و الهَزَابِر جمع هَزَابِر (ح): شیر۔
۲۔هَزبَلَ هَزبَلَةً الرجلُ: سخت مفلس ہونا۔ الهَزبَلِيل: تھوڑا۔

هزج: ۱۔هَزِجَ ـهَزَجًا المغنّی فی غناءه: گویے کا سُر و راگ سے گانا یا پڑھنا۔ بحر ہزج کے اشعار پڑھنا۔ هَزَّجَ: بمعنی هَزِجَ۔ ـ صوتَهُ: آواز برقرار رکھنا۔ أهزَجَ الشاعِرُ: بحر ہزج کے اشعار بنانا۔ تَهَزَّجَ الصوتُ: آواز کا پے در پے ہونا۔ ـ ت القوسُ: کمان کا آواز نکالنا۔ ـ الرعدُ: بادل کا گرجنا۔ الهزج (مص): گرج کی آواز، ایک سروالا ترانہ، سریلی آواز، ہر بحر دار کلام عروض کی ایک بحر کا نام۔ جس کا وزن مفاعیلن چار بار ہے۔ قدموں کا ہلکا پن اور سرعت۔ الهَزِج: ترانہ گانے والا۔ فرسٌ هَزِجٌ: ہلکے قدم ڈالنے والا گھوڑا، تیز قدم اٹھانے والا گھوڑا۔ الأهزُوجة جمع أهازِيج: گیت۔
۲۔الهزيع من الليل: رات کا ایک پہر۔
○ هَزِجَ ـهَزَجا: گانا۔ هَزَج: عروض کی ایک بحر کا نام۔ أُهزُوجة جمع اهازيج: گیت۔

هزر: ۱۔هَزَرَ ـهَزرًا هُ بالعصا: کی لاٹھی سے خوب پٹائی کرنا۔ ـ الشيءَ: کو زور سے چبھونا۔ ـ فلانًا: کو جلا وطن کرنا۔ صفت مفعولی مَهزُور و هَزِير۔ ـ به الأرضَ: کو زمین پر پچھاڑنا۔ ـ البائعُ: چیز مہنگی بیچنا، گراں کرنا، قیمت چڑھانا۔ الهِزر: سخت، فریب خوردہ، بے وقوف۔ الهَزَرَة: کاہل سستی۔

والهَزرَة جمع هَزَرَات: نرم زمین۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ ذو هزرات: ہر چیز میں نقصان اٹھانے والا۔ رجلٌ مِهزَرٌ: ہر چیز میں نقصان اٹھانے والا۔
۲۔هَزَرَ ـهَزرًا لفلان: کو بہت عطیہ دینا۔ ـ الرجلُ: حاجت کیلئے جلدی کرنا۔
۳۔هَزَرَ ـهَزرًا الرجلُ: ہنسنا۔
۴۔الهَزَار جمع هَزَارَات (ح): بلبل۔ ہزار دستان۔
۵۔هَزرَفَ فی عدوه: تیز دوڑنا۔ الهِزرَاف و الهُزَارِف و الهُزرُوف: تیز رفتار شتر مرغ۔ الهِزرَفِي: بہت حرکت کرنے والا۔ الهُزرُوف: تیز رفتار شتر مرغ، بڑے جسم کا۔
○ هَزَرَ ـهَزرًا: ہنسنا۔ هَزَّرَ: مذاق کرنا، دل لگی کرنا، فقرہ کسنا، طعن کرنا۔ هِزار: مذاق، دل لگی۔

هزع: ۱۔هَزَعَ ـهَزعًا: جلدی کرنا، ہلنا، لرزنا، کانپنا۔ ـ الشيءَ: کو توڑنا۔ هَزَّعَ تَهزِيعًا هُ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَهَزَّعَ الرجلُ: جلدی کرنا۔ ـ ت المرأة فی مشيتها: عورت کا ڈگمگانا۔ ـ تِ الابلُ فی سيرها: اونٹوں کا جھکتے ہوئے چلنا۔ ـ الرجلُ: تیوری چڑھانا۔ اِنهَزَعَ الشيءُ: ٹوٹنا۔ اِهتَزَعَ: جلدی کرنا، ہلنا، لرزنا، کانپنا۔ ـ السيفُ و نحوُهُ: تلوار وغیرہ کا ہلنا۔ الهَزَع: اضطراب، بے چینی، بے قراری۔ الهُزَع و الهُزَّاع (ح): شکار کو بہت پھاڑنے والا شیر۔ الهَيزَعَة: خوف، جنگ میں شور و غل، اضطراب، قلق۔ الهَزِيع: بے وقوف۔ المِهزَع: درختوں کو توڑنے والا، کوٹنے کا آلہ، بہت جلدی کرنے والا۔ سيفٌ مُهتَزِعٌ: اچھی طرح ہلنے والی تلوار۔ فرسٌ مُهتَزِعٌ: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔
۲۔تَهَزَّعَ لهُ: سے اپنے کو انجان بنانا۔ الهَزِيعُ من الليل جمع هُزُع: رات کا ایک حصہ، ایک تہائی یا ایک چوتھائی رات، یا رات کی ایک گھڑی۔
۳۔الهِزَاع: اکیلا، منفرد۔ کہا جاتا ہے بما فی الجعبة الاسهمٌ هِزَاع: ترکش میں صرف ایک ہی تیر ہے۔ الأهزَع: ترکش کا آخری تیر، خواہ ناکارہ ہو یا کارآمد۔ کہا جاتا ہے بمالهُ أهزع (غیر منصرف): اس کے پاس کچھ نہیں۔ ما فی الدار أهزَعُ: گھر میں کوئی بھی نہیں۔ ما بقی فی سنام بعيرك أهزَعُ: تمہارے اونٹ کے کوہان میں چربی باقی نہیں رہی۔
○ هَزَعَ ـهَزعًا و تَهَزَّعَ: جلدی کرنا۔ هَزِيع: رات کا ایک حصہ، پہر۔

هزف: هَزَفَ ـهَزفًا تهُ الريحُ: ہوا کا کسی چیز کو اڑا لے

هزق: هَزِقَ ـهَزَقًا: چست ہونا۔ ـ و أهزَقَ فی الضحك: بہت ہنسنا۔ الهَزَق: چستی، رعد کی سخت آواز۔ الهَزِق: سخت گرج، سخت گھن گرج۔ ـ من الرجال: بہت ہنسنے والا اوچھا آدمی۔ الهَزِقَة من النساء: ایک جگہ ٹک کر نہ بیٹھنے والی عورت۔ المِهزَاق: چنچل عورت، بہت ہنسنے والی۔ رجلٌ مِهزَاق: بہت ہنسنے والا اوچھا آدمی۔

هزل: ۱۔هَزَلَ ـهَزلاً و هُزلاً و هُزَالاً: لاغر و کمزور ہونا۔ ـ ت حالُ فلانٍ: کا حال (یا حالت) پتلا (پتلی) ہونا (کہا جاتا ہے: لهُ فضلٌ جزيلٌ و حالٌ هزيلٌ: وہ بہت فیض رساں ہے مگر حالت پتلی ہے)۔ ـ هَزلاً الدابَّةَ: جانور کو دبلا کرنا، کمزور کرنا۔ ـ القومُ: لوگوں کے مویشیوں کا دبلا ہونا، دبلے مویشیوں والے ہونا۔ ـ فلانٌ: کسی کا جانوروں کے مرنے سے محتاج و تنگ حال ہونا۔ هَزِلَ ـ و هُزِلَ هَزلاً و هُزلاً و هُزَالاً: دبلا اور کمزور ہونا۔ هَزَّلَ هُ: کو دبلا کرنا۔ أهزَلَ فلانًا: کو کمزور کرنا۔ أهزَلَ القومُ: لوگوں کا لاغر و دبلے جانوروں والا ہونا، اپنے جانوروں کو سختی و تنگی سے روکنا۔ الهُزَال (مص): دبلا پن، لاغری۔ الهَزِيل جمع هَزلَى: لاغر، دبلا، پتلا۔ الهَزِيلَة جمع هَزَائِل و هَزلَى: دبلا پن۔ المَهزُول جمع مَهَازِيل: دبلے پن کا مریض۔ ارضٌ مَهزُولَةٌ: نرم زمین۔
۲۔هَزَلَ ـهَزلاً فی كلامه: مذاق ٹھٹھا کرنا، بکواس کرنا، ہذیان بکنا، بات میں سنجیدہ نہ ہونا۔ هَازَلَ مُهَازَلَةً: ٹھٹھا کرنا، بے ہودگی کرنا۔ ـ فلانًا: سے مزاح کرنا۔ اهزَلَ فلانًا: کو کھلاڑی پانا۔ الهُزَالَة: ظرافت و خوش طبعی۔ کہا جاتا ہے وقعت بينهما هُزَالَة: دونوں نے ظرافت اور خوش طبعی کی۔ الهَزَّال و الهَزِيل: مسخرا بھانڈ۔ الهُزَّيلَى: شعبدہ باز کا فعل۔
۳۔الهَيزَلَة: جھنڈا۔ کہا جاتا ہے بساروا و فيهم هيزلة: انہوں نے جھنڈا لے کر کوچ کیا۔
۴۔هَزلَجَ هَزلَجَةً: جلدی کرنا۔ الهِزلاج جمع هَزَالِج: تیز رفتار، سبک چال۔ (ح): بھیڑیا۔ الهَزلَجَة (مص): آوازوں کا اختلاط۔ (ملا جلا ہونا)۔ جلدی۔
○ هَزَلَ ـهَزلاً و هُزلاً و هَزِلَ ـهَزلاً و هُزِل: لاغر و دبلا پتلا ہونا، کمزور ہونا، وزن کھونا۔ هَزَلَ ـهَزلاً: مذاق کرنا، مذاقیہ یا غیر سنجیدہ باتیں کرنا۔ ـ ہ: کو کمزور کرنا، دبلا پتلا کرنا، نحیف کر دینا۔ هَزَّلَ ہ: کو دبلا کرنا، لاغر کرنا، نحیف کرنا، کمزور کرنا، گھلانا۔ هَازَلَ ہ: سے مذاق کرنا، سے یونہی کچھ کہہ دینا۔ أهزَلَ ہ: کو لاغر کرنا، دبلا کرنا، کمزور کرنا، نحیف کرنا، گھلانا۔ اِنهَزَلَ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کمزور ولاغر ہونا۔ هَزل: مذاق، مزاح، دل لگی، تفریح، ہنسی مذاق۔ هَزلي: مضحکہ خیز، ہنسی کا، ظریفانہ، دلچسپ عجیب، خوش طبع، تمسخرانہ، تفنن آمیز، مزاحیہ۔ رواية هزليه یا هَزلِيَة: طربیہ، بزمیہ تمثیل۔ هَزِل: مسخرا، بھانڈ، ظریف، ہزل گو، خوش طبع، بذلہ سنج۔ هَـزِيـل: کمزور، لاغر، دبلا پتلا۔ مَهـزَلَة جـمـع مَهـزلات و مَهَازِل: طربیہ تمثیل (comedy)، هَـازِل: مذاق کرنے والا، ہنسوڑ، دل لگی باز، مضحکہ خیز، ہنسانے والا، خوش طبع، دلچسپ، مسخرا، بھانڈ، ہزل گو، بزلہ سنج۔ صُـحُفٌ هَـازِلة: مزاحیہ رسالے۔ مَهزُول: کمزور، لاغر، دبلا پتلا، اترا ہوا (منہ)، نحیف نزار۔

هزم: ۱۔ هَزَمَ ـهَزمًا العدوَّ: دشمن کو شکست دینا۔ ــ له حَقَّهُ: کے حق کو ہضم کرنا، گم کرنا۔ ــ فُلانًا: کو قتل کرنا، کو ایسی ضرب لگانا کہ سین میں گھس جائے اور ناف نکل آئے۔ ــ الشيءَ: کو ہاتھ سے دبا کر گڑھا ڈالنا۔ ــ البئر: کنواں کھودنا۔ ــ ت القوسُ: کمان کا آواز دینا۔ ــ هُزُومًا الليلُ: صبح کی سفیدی کا ظاہر ہونا۔ هُزِمتُ عليه: سے ہمدردی کرنا۔ هَزَّمَ العدوَّ: دشمن کو شکست فاش دینا۔ تَهَزَّمَت القربةُ: مشک کا خشک ہو کر پھٹنا۔ ــ البناءُ: عمارت کا گرنا، ڈھے جانا۔ ــ ت القوسُ: کمان کا آواز دینا۔ اسی طرح لاٹھی اور گرج کا آواز دینا۔ ــ تِ السحُبُ بالماء: بادل کا گرج کر بہت برسنا۔ اِنهَزَمَ: شکست کھانا۔ ــ الجیش: لشکر کا شکست کھانا۔ ــ ت العصاء: لاٹھی کا آواز کے ساتھ پھٹنا، ٹوٹنا۔ اِهتَزَمَ الشاةَ: بکری کو ذبح کرنا۔ ــ تِ السحابةُ بالماء: بادل کا گرج کر بہت برسنا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کے دوڑنے کی آواز سنائی دینا۔ ــ الشيءَ: کو جلدی سے کرنے لگنا۔ اِستَهزَمَ الجیوش: فوجوں کو شکست دینا، ان کی شکست چاہنا، کو شکست خوردہ پانا۔ الهازمة جمع هَوَازِم: مصیبت۔ الهَزم (مص) جمع هُزُوم: پست زمین۔ پانی سے خالی پتلا بادل۔ الهَزَم: کمان کی آواز۔ الهَزِم من الخیل: مطیع گھوڑا۔ فرسٌ هَزِم و فرسٌ هَزِم الصوت: گرج کے مشابہ آواز والا گھوڑا۔ غيثٌ هَزِم: دھواں دار بارش۔ قِدرٌ هَزِمَةٌ: بہت ابلنے والی ہانڈی۔ الهَزمَة جمع هَزم و هُزُوم و هَزَمَاتٌ: اسم مرۃ، پست زمین، گڑھا جو ہاتھ کے دبانے سے سینے یا سیب میں پیدا ہو جائے، سینہ کا گڑھا، ہنسلی کی ہڈیوں کے درمیان کا گڑھا۔ هُزُوم الجوف: پیٹ میں کھانے اور پانی کی جگہ۔ الهَزُوم: آواز دینے والی کمان۔ قوس هَزُوم بَيِّنَةُ الهزم: واضح آواز دینے والی کمان۔ الهَزِيم: گرج کی آواز، گرج، سخت آواز والا گھوڑا۔ جیش هَزِيمٌ: شکست خوردہ لشکر۔ غيثٌ هَزِيمٌ: نہ تھمنے والی بارش۔ الهَزِيمة: شکست۔ هَزَائِم کا واحد یعنی بہت پانی والا کنواں۔ هَزِيمةُ الفرس: تیز دوڑنے پر گھوڑے کا پسینہ بہنا۔ الهِزَّيمَى: شکست۔ الهَزَم: بہت سخت۔ (ح): شیر۔ المُتَهَزِّم (فا): گرج، رعد۔ قصبٌ مُتَهَزِّمٌ مُهَزَّمٌ: ٹوٹا اور پھٹا ہوا نرکل۔ سقاء مُتَهَزِّمٌ و مُهَزَّمٌ: خشک ہونے کی وجہ سے چٹخ ڈلی مشک۔

۲۔ المِهزَام جمع مَهَازِيم: آگ ہلانے کی لکڑی، چھڑی۔ لکڑی جس کے سرے پر آگ لگا کر بچے کھیلتے ہیں۔

○ هَزَمَ ـهَزمًا ه: کو بھگا دینا، کو ہرانا، شکست دینا، پر غالب آنا، فتح پانا، کو بے کار کر دینا، کو بے اثر کر دینا، کو غیر جانب دار بنا دینا، کو طرف داری سے باز رکھنا۔ اِنهَزَمَ: شکست کھانا، ہار جانا، بھگایا جانا۔ هَزم: غالب آنا، فتح پانا، شکست دینا، شکست، ہار۔ هَزِيم: گرج کی آواز، بادل کی گرج، گڑگڑاہٹ، گڑگڑانا، رعد، کڑک، گھڑگھڑاہٹ، فرار ہونے والا، بھاگا ہوا، مفرور بھگوڑا، بھاگتا ہوا۔ هَزِيمَة جمع هَزَائم: شکست، ہار۔ رُوحُ الهَزِيمَة: شکست پسندی، شکست خوردگی، احساس کمتری و کمزوری۔ اِنهِزَام: شکست سے دوچار ہونا، شکست، محرومی، ناکامی، مایوسی، غیر منظم فرار۔ اِنهِزَامِي جمع انهزاميون: شکست خوردہ، ذہنیت کا مالک، شکست مان لینے والا، قوم کو شکست تسلیم کر لینے کی دعوت دینے والا۔ اِنهِزَامِيَة: ہزیمت پسندی، شکست خوردگی۔

هسّ: ۱۔ هَسَّ ـهَسًّا الشيءَ: کو کوٹنا، توڑنا۔ ــ هَسًّا: دل میں بات کرنا۔ ــ الكلامَ: بات چھپانا۔ الهَسِيس: پوشیدہ کلام، سرگوشی، ریزہ ریزہ شدہ۔ هَسِيسُ الجِنّ و هَسَلسُها: بیابان میں جنوں کی آواز، سرسراہٹ۔

۲۔ هَسهَسَ هَسهَسَةً الدرع او الحلي: زرہ یا زیور کا جھنکارنا۔ ــ الحديثَ: بات کو پوشیدہ رکھنا۔ ــ الماءُ: پانی کا لگاتار بہنا۔ تَهَسهَسَ الدرعُ او الحلي: زرہ یا زیور کا جھنکارنا۔ الهَساهِس: رات کو چلنا۔ هَسَاهِسُ الناس: لوگوں کا پوشیدہ کلام۔ الهَسهَسَة (مص): زرہ و زیور وغیرہ کی جھنکار، پوشیدہ آواز والی چیز۔ الهَسهَاس: غیر مفہوم کلام، وسوسہ، دل کی بات، تمام رات بکریاں چرانے والا چرواہا، کام کیلئے تمام رات جاگنے والا، قصائی۔

○ هَسَّ ـهَسًّا: سرگوشی کرنا، زیر لب بولنا، کان میں کہنا۔ هَسّ: سرگوشی، کانا پھوسی، خودکلامی۔ هُسّ: خاموش چپ۔ هَسِيس: سرگوشی، سرگوشی کی آواز۔ هِستُولُوجيا: histology۔ هِستِيريا و هِيستِيريا: اختناق الرحم، اعصابی تناؤ، ہسٹیریا۔ هِستِيري: باؤ گولے کی مریضہ، ہسٹیریائی، ہسٹیریا سے متاثر۔

هش: ۱۔ هَشَّ ـهَشًّا ورقَ الشجر: لاٹھی سے درخت کے پتے جھاڑنا۔ ــ هَشَاشَةً و هَشَاشًا: مسکرانا، خوش ہونا، اچھے کام کے لئے مستعد ہونا، سرگرم ہونا، (پر) مہربان ہونا۔ کہا جاتا ہے: هَشَشتُ و هَشِشتُ بفلان و لفلان و أهِشُّ و أهَشُّ به و له میں فلاں سے خوش ہوا۔ ــ هُشُوشَةً الخبزُ: روٹی کا نرم ہونا۔ ــ الرجُلُ: سست و کمزور ہونا۔ ــ هَشَاشَةً و هُشُوشًا العودُ: لکڑی کا جلد ٹوٹنے والا ہونا۔ ــ الشيءُ: نرم اور ڈھیلا ہونا۔ صفت: هَشّ۔ هَشَّشَهُ: کو کمزور پانا، کو خوش کرنا۔ اِهتَشَّ لكذا: پر خوش ہونا، کا خواہش مند ہونا۔ ــ فلانٌ بي: فلاں شخص مجھ سے خوش ہوا۔ اِستَهَشَّهُ: کو ہلکا سمجھنا۔ الهَشّ (مص): نرم، ڈھیلا۔ فلانٌ هَشُّ المكسرِ: فلاں مہربان، نرم خو ہے۔

○ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ هَشُّ الوجه: فلاں ہنس مکھ ہے۔ فرسٌ هَشّ: بہت پسینہ والا گھوڑا۔ فرس هش العنان: نرم لگام والا گھوڑا۔ انا به هَشٌّ بَشّ: میں اس سے بہت خوش ہوں۔ خُبزَةٌ هَشَّةٌ: نرم روٹی۔ خبزٌ هَشَاش: نرم روٹی۔ قربةٌ هَشَّاشَة: ٹپکنے والی مشک۔ ناقةٌ هَشُوش و شاةٌ هَشُوشٌ: بہت دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ الهَشِيش: خشک گھاس، نرم مان لینے والا، سوال کئے جانے پر خوش ہونے والا۔

۲۔ هَشهَشَ الشيءَ: کو حرکت دینا۔ الهَشهاش: خوش خلق، سخی۔

○ هَشَّ ـهُشُوشَةً: (روٹی کا) خستہ ہونا۔ ــ هَشَاشًا و هَشَاشَةً: خوش دل ہونا، خوش باش وضع قطع یا چال ڈھال کا اظہار کرنا، مسکراہٹ کا اظہار کرنا۔ ــ ل/ب: پر مسکرانا، یا کو پسند کرنا، سے شائستہ اور دلکش انداز سے ملنا، کا مہربانی سے استقبال کرنا۔ ــ ل: پر یا کی وجہ سے خوش ہونا، مسرور ہونا۔ ــ ه: مکھیاں وغیرہ اڑانا۔ ــ ه علي: مویشیوں کے لئے پتے جھاڑنا۔ هَشَّشَهُ: کا جی خوش کرنا، میں جان ڈالنا، کی ہمت بڑھانا، کا حوصلہ بلند کرنا۔ هَشّ: نازک، کمزور، جلدی ٹوٹ جانے والا، خستہ، بے لوچ، ریزہ ریزہ ہو جانے والا، نرم، بھربھرا، تازہ اور نرم، خوش نشاط افزا، فرحت بخش، چست و چالاک، تیز پھرتیلا، خوش طبع، زندہ دل، تیز

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

طرار، سرگرم جوشیلا، زوردار۔ هَشَّاش: نرم، ریزہ ریزہ ہو جانے والا، بھربھرا، خستہ، جو بآسانی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ هَشِيش: نرم۔ هَشَاشَة: خوش طبعی، شگفتہ مزاجی، خوشی، شادمانی، خوش مزاجی، زندہ دلی۔ هَاش: خستہ، خوش دل، خوش و خرم، زندہ دل، روشن چہرے والا، خوش، شاد، فرحت بخش، زندہ دل، روح پرور، خوش مزاج۔ هاش باش: خوش و خرم، مسرور۔ هُش: خاموش یا چپ!

هشر: هَشَرَ ـ هَشْرًا الناقةَ: اونٹنی کا سب دودھ دوہنا۔ الهَشْر (مص): ہلکاپن، پتلاپن۔ الهَشْرَة: تکبر، غرور۔ شجرةٌ هَشِرَةٌ و هَشُور: وہ درخت جس کے پتے جلد گر جائیں۔ الهَيْشَر من الرجال: نرم، کمزور اور لمبا آدمی۔

هشل: هَشَّلَ تَهْشِيلًا ت الناقةُ: اونٹنی کا تھوڑا دودھ اتارنا۔ عام لوگ کہتے ہیں هَشَلَهُ فَهَشَلَ: اس نے اسے بھگا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ أَهْشَلَ الرجُلَ: مالک کی اجازت کے بغیر سواری کا جانور کسی کو دینا۔ اِهْتَشَلَ الفرسَ: گھوڑے پر مالک کی اجازت کے بغیر سوار ہونا۔ الهَشِيلَة: وہ سواری کا جانور جس پر مالک کی اجازت کے بغیر سوار ہوں ـــ من الابل و غيرها: غصب کیا ہوا اونٹ وغیرہ۔ الهَيْشَلَة: عمر رسیدہ موٹی اونٹنی۔

هشم: هَشَمَ ـ هَشْمًا الشيءَ: کو توڑنا۔ هَشَمَ الثريدَ لقومه: اپنی قوم کے لئے روٹی کو ریزہ ریزہ کر کے اور شوربے میں بھگو کر ثرید بنانا۔ صفت: هَاشِم۔ هَشَّمَ الشيءَ: کو بہت توڑنا ـــ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا ـــ فلانًا: کا اکرام و تعظیم کرنا۔ تَهَشَّمَ الشيءُ: چیز کا ٹوٹنا ـــ الشجرُ: درخت کا سوکھ کر ٹوٹنا ـــ فلانٌ الشيءَ: چیز کو توڑنا ـــ ت الارضُ: بارش رک جانے سے زمین کا خشک ہو جانا ـــ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا ـــ الابلُ: اونٹوں کا سست و کمزور ہونا ـــ الرجُلَ: کی تعظیم و تکریم کرنا۔ زیدًا: زید کو مہربان بنانا، رضامند کرنا ـــ علی فلان: پر مہربان ہونا۔ کہا جاتا ہے تَهَشَّمَهُ للمعروف: سے بھلائی طلب کرنا۔ اِنْهَشَمَ الشيءُ: چیز کا ٹوٹنا ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا سست و کمزور ہونا۔ اِهْتَشَمَ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا۔ کہا جاتا ہے اِهْتَشَمْتُ نفسی له: میں نے بیدلی سے اس کے لئے کام کیا۔ الهَاشِمَة: ہاشم کا مؤنث۔ ہڈی توڑ ضرب۔ الهَشْم (مص) جمع هُشُوم: قحط زدہ زمین، پست زمین۔ الهَيْشَم: فیاض، سخی۔ الهُشَّم: دودھ کے ماہر دوہنے والے (اس کا مفرد هاشم ہے)، نرم پہاڑ۔ الهَشْمَة: هَشْم کا اسم مرة۔ الهَشْمَة جمع هَشَمَات (ح): پہاڑی بکری۔ الهَشَام: سخاوت۔ الهَشِيم: ٹوٹا ہوا، خشک، ٹوٹے ہوئے پودے، خشک گھاس، خشک درخت۔ نبتٌ هشيم: پہلے سال کی باقی ماندہ گھاس۔ کہا جاتا ہے: صارت الارض هشيما: زمین کے درخت اور گھاس خشک ہو گئے اور ٹوٹ گئے۔ کمزور جسم والا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ هَشِيم: کمزور جسم والا آدمی۔ الهَشِيمَة: زمین جس کے درخت سوکھ گئے ہوں، خشک درخت۔ كلأٌ هَيْشُوم: نرم و بھربھرا گھاس۔ ناقة مِهْشَام: جلد لاغر ہونے والی اونٹنی۔

○ هَشَمَ ـ هَشْمًا و هَشَّمَ ہ: کو تباہ کرنا، کو پاش پاش کرنا، توڑ پھوڑ ڈالنا، کچل ڈالنا۔ تَهَشَّمَ و اِنْهَشَمَ: تباہ ہونا، پاش پاش ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا۔ هَشِيم: کمزور، جلدی ٹوٹ جانے والا، خشک ڈنٹھل، ڈنڈیاں، بھوسا، تنکا، پیال، بھوسی، چوکر۔ هاشمی: ہاشمی، ہاشمی قبیلہ کا۔ مُهَشَّم: تباہ شدہ (شہر)، کچلا ہوا، پسا ہوا۔

هشو: هَاشَى مُهَاشَاةً ہ: سے مذاق کرنا، مزاح کرنا۔

هص: ا۔هَصَّ ـ هَصًّا الشيءَ: کو روند کر کچلنا، توڑنا، باریک کرنا، کو انگلیوں سے زور سے دبانا۔ صفت مفعولی: هَصِيص و مَهْصُوص۔ الهَصّ (مص): ہر سخت چیز۔ الهصيص: روندی ہوئی، کچلی ہوئی (چیز)۔
۲۔هَصَّصَ الرجُلُ: چمکیلی آنکھوں والا ہونا۔ الهَاصَّة: ہاتھی کی آنکھ۔ هصيصُ النار: آگ کی چمک۔
۳۔هَصْهَصَ هَصْهَصَةً ہ: کو ہاتھ سے دبانا۔ الهُصْهُص و الهُصَاهِص: مضبوط آدمی یا شیر۔
۴۔الهَصْهَاص: چمکیلی آنکھوں والا۔ المُهَصْهِصَة: چوروں کا خاص طور پر رات کے وقت جاسوس۔

هصب: هَصَبَ ـ هَصْبًا: بھاگنا، فرار ہونا۔

هصر: هَصَرَ ـ هَصْرًا الشيءَ و بالشيءِ: چیز کو کھینچنا اور جھکانا ـــ الغصنَ و بالغصنِ: شاخ کو جھکانا یا موڑ کر بغیر الگ کرنے کے توڑنا ـــ الشيءَ: کو توڑنا، ہٹانا، قریب کرنا ـــ قِرنَهُ: ہمسر کو دبانا ـــ الاسدُ فريستَهُ: شیر کا اپنے شکار کو توڑنا، ادھیڑنا۔ تَهَصَّرَت اَغْصَانُ الشجرة: درخت کی ٹہنیوں کا جھکنا، لٹکنا۔ اِنْهَصَرَ: جھکنا، کھنچ جانا، مڑنا، ٹوٹنا۔ اِهْتَصَرَ: جھکنا، کھینچا جانا، مڑنا، ٹوٹنا ـــ الغصنَ: شاخ کو اپنی طرف کھینچنا، جھکانا ـــ النخلةَ: کھجور کا خوشہ درست کرنا۔ الهَاصِر (ح): شیر۔ الهُصَر: شیر۔ رجُلٌ هُصَرٌ: [illegible] والا۔ الهَصُور و الهُصَرَة و الهَصُورَة و الهَيْصَر و الهَصُور و الهُصَرَة و الهَصُورَة و الهَيْصَر و الهَيْصَار و الهَيْصُور و الهَصَّار و المِهْصَر و المِهْصَار و المِهْصِير و المُهْتَصِر (ح): شیر۔ الهَصُرَة و الهَصَرَة: گھونگا جو تعویذ کے طور پر پہنا جائے۔ الهَوَاصِر و الهَوَاصِير: شکار کو پھاڑنے والے شیر، یہ هَصُور کی جمع ہے۔

○ هَصَرَ ـ هَصْرًا ہ: (شاخ ٹہنی) کو اپنی طرف کھینچنا، جھکانا۔ ہ: میں گڑھا، درز یا دراڑ ڈالنا، شگاف کرنا، کو تڑقانا، توڑنا۔ هَصُور: شیر کا لقب۔

هصم: هَصَمَ ـ هَصْمًا ہ: کو توڑنا۔ نابٌ هَيْصَمٌ: ہر چیز کو توڑنے والا دانت۔

هصو: هَصَا يَهْصُو هَصْوًا الرجُلُ: بوڑھا ہونا۔ هَاصَى مُهَاصَاةً ہ: کی پیٹھ توڑنا۔ الأَهْصَاء: مضبوط لوگ۔

هض: هَضَّ ـ هَضًّا الشيءَ: کو توڑنا، باریک کرنا۔ صفت مفعولی هَضِيض و مَهْضُوض ـــ ت الإبلُ: اونٹوں کا تیز چلنا ـــ فلانٌ المشيَ: خوبصورت چال چلنا ـــ فلانًا: کو ترغیب دینا۔ هَضْهَضَ: زمین پر زور سے پاؤں مارنا۔ اِنْهَضَّ الشيءُ: ٹوٹنا۔ اِهْتَضَّ الشيءَ: کو توڑنا۔ کہا جاتا ہے اِهْتَضَّ نفسَهُ لفلان: وہ فلاں کے سامنے تابعدار ہو گیا، اور بے دلی سے راضی ہو گیا۔ الهَضَض: شکستگی، ٹوٹ پھوٹ۔ الهَضَّاء: آدمیوں کی جماعت، گھوڑوں کا گلہ۔ الهَضَّاض: مبالغہ کا صیغہ۔ فَحْلٌ هَضَّاض: جوانوں کی گردن توڑنے والا جوان۔

○ هَضَّ ـ هَضًّا: تیز چلنا، تیز تیز چلنا، آگے بڑھنا، ترقی کرنا۔

هضب: هَضَبَ ـ هَضَبَانًا تِ السماءُ: آسمان کا برسنا ـــ ت السماءُ القومَ: بارش کا لوگوں کو بالکل بھگو دینا ـــ القومُ في الحديث: زور زور سے باتیں کرنا۔ کہا جاتا ہے اهضبوا يا قوم: لوگو باتیں کرو، بولو۔ أَهْضَبَ القومُ: پہاڑوں کی چوٹیوں پر اترنا۔ اِسْتَهْضَبَ الجبلُ: پہاڑ کا زمین پر پھیلا ہوا ہونا۔ الهَضْبَة جمع هِضَب و هَضْب و هِضَاب و هَضَبَات و جج أهاضيب: زمین پر پھیلا ہوا پہاڑ، بلند پہاڑ، بلند زمین، بارش کی بوچھاڑ۔ رجُلٌ هَضْبَةٌ: باتونی آدمی۔ الهِضَب: بہت سخت، بہت پسینہ بہانے والا گھوڑا۔ غنمٌ هَضِيبٌ: کم دودھ کی بکری۔ الأُهْضُوبَة جمع أَهَاضِيب من المطر: بارش کی بوچھاڑ۔ روضةٌ مَهْضُوبَةٌ: بارش سے بھیگا ہوا سبزہ زار۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۲۔هَضَبَ -هَضْبًا الرجُلُ: بےوقوف کی طرح چلنا۔ ۞ هَضَبَ -هَضْبًا: لفاظی والا ہونا، باتونی ہونا۔هَضْبَة جمع هِضَاب: پہاڑی، پہاڑ، بلندی، چڑھائی۔

هضج: هَضَجَ السوائمَ: مویشیوں کو اچھی طرح نہ چرانا۔صبیانٌ هَضِيجٌ: چھوٹے بچے (اس کا مفرد نہیں آتا)۔

هضل: هَضَلَ -هَضْلاً بالشِعر او بالكلام: شعر یا کلام بہت کہنا۔أَهْضَلَتِ السماءُ: بارش برسنا۔ــت الدلْوُ: ڈول کا کنویں کی دیوار سے ٹکرا کر پانی سے بھر جانا۔الهَضْل (مص) بہت۔الهَضْلاءُ: لمبے پستان والی عورت۔الهَضّال: بدی خواں۔الهَيْضَل: ہتھیار بند جماعت، بڑی فوج۔جملٌ هَيْضَل: موٹا، بڑا لمبا اونٹ۔الهَيْضَلَة: ادھیڑ عمر کی عورت، ہتھیار بند جماعت، لوگوں کی آوازیں۔ــ من النوق: موٹی لمبی اونٹنی، بوڑھی اونٹنی، زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔

هضم: هَضَمَ -هَضْمًا ت المعدةُ الطعامَ: معدے کا خوراک کو ہضم کرنا۔ــ الشیءَ: کو توڑنا۔ــ فلانًا: پر ظلم کرنا، کو غصب کرنا۔اسم الهضيمة۔ــهُ حقَّهُ: کے حق کو کم کرنا۔ــ له من حقه شيئًا: کو اپنے حق میں سے کچھ بخوشی دینا۔ــ لهُ من ماله: کو اپنے مال میں سے دینا۔ــ على القوم: پر حملہ کرنا، کے پاس اچانک آنا۔کہا جاتا ہے ما شعروا بنا حتى هَضَمْنا عليهم: انہیں پتہ نہیں چلا حتی کہ ہم اچانک ان کے پاس آدھمکے۔ما هضم عليه: وہ اس کے قریب نہیں آیا۔هَضِمَ -هَضَمًا: نازک و پتلی کمر والا ہونا۔صفت مذکر أَهْضَمُ۔صفت مؤنث: هَضْمَاء جمع هُضْم۔کہا جاتا ہے في كَشْحِهِ هَضَمٌ: وہ موٹا نہیں، یا کہ اس کی کمر پتلی ہے۔ــت الخيلُ: گھوڑے کا چھریرے بدن والا ہونا۔تَهَضَّمَهُ: پر ظلم کرنا، کو لوٹ لینا، کو ذلیل و خوار کرنا، کو توڑنا۔ــ للقوم: قوم کا مطیع ہونا۔کہا جاتا ہے تهضمتُ له نفسي: میں بے دلی سے اس سے راضی ہوا۔اِنْهَضَمَ الطعامُ: کھانا ہضم ہونا (کہا جاتا ہے هذا طعامٌ سريع الانهضام: یہ جلد ہضم ہونے والا کھانا ہے)۔ــ الشیءُ: مل جانا۔اِهْتَضَمَهُ: پر ظلم کرنا، کو لوٹ لینا، کا حق کم کرنا۔الهَاضِم: فا: شیءٌ هاضِم: نرم چیز۔الهَاضِمَة: هاضم کا مؤنث، قوت ہاضمہ۔الهَاضُوم: ہاضم دواء، اپنا مال خرچ کرنے والا، (ح): شیر۔الهَضْم (مص): غذا کا جزو بدن ہونا۔ــ والهِضْم جمع أَهْضَام و هُضُوم: پست زمین، بطنِ وادی۔ــ والهَضَم الهَضْمَة: ایک قسم کی دھونی۔الهَضَّام: مبالغہ کا صیغہ، غذا کو ہضم کرنے والی دواء۔الأَهْضَم م هَضْماء جمع هُضْم: موٹے دانتوں والا۔أَهْضَمُ الكَشحين: پتلا دبلا، نازک بدن۔الهَضُوم جمع هُضُم: کھانے ہضم کرنے میں مدد۔يدٌ هَضُوم: فیاض ہاتھ، سخی ہاتھ۔کہا جاتا ہے فتيانٌ هُضُمٌ: مال خرچ کرنے والے نوجوان۔رجُلٌ هَضُومُ الشتاء: سردیوں میں مال خرچ کرنے والا۔الهَضِيم: ہضم کیا ہوا، حقوق میں ظلم کیا ہوا۔امرأةٌ هَضِيمٌ: پتلی کمر والی عورت۔بطنٌ هَضِيمٌ: خالی پیٹ پتلا دبلا پیٹ۔قصبةٌ هَضِيمٌ: بانسری۔الهَضِيمَة جمع هَضَائِم: میت کا کھانا، ظلم، غصب۔المَهْضُومَة: ایک مخلوط خوشبو۔قَصَبَةٌ مَهْضُومَةٌ و مُهَضَّمَةٌ: بانسری۔کہا جاتا ہے رأيتهُ مُتَهَضِّمًا: میں نے اس کو غم سے نڈھال چہرے والا دیکھا۔

۞ هَضَمَ -هَضْمًا ہ: کھانا ہضم کرنا، تحلیل کرنا، پچانا (پیٹ کا)۔ــ ہ: پر ظلم کرنا، کو خوفزدہ کرنا، پر ناجائز دست اندازی کرنا، کی ہتک کرنا، سے بے انصافی کرنا، کو برداشت کرنا، جھیلنا۔ــ ہ: کو گوارہ کرنا، برداشت کرنا۔اِنْهَضَمَ: ہضم ہونا۔اِهْتَضَمَ ہ: پر ظلم کرنا، سے ناانصافی کرنا۔هَضْم: قوت ہضم، ہاضمہ، صبر۔هضم الجانب: برداشت، صبر، فرمانبرداری، اطاعت، بخشش، عفو و کرم۔سهلُ الهضم: بآسانی ہضم ہونے والا، ہلکا۔هَضْمِي: ہضم میں معاون، ہاضم، معاونِ ہضم، غذائی۔هَضُوم: قابل ہضم، قابل برداشت، موافق، خوشگوار، صحت بخش۔هَضِيم: ہضم شدہ، قابل ہضم، مظلوم، خوف زدہ، جس سے ناجائز دست اندازی کی گئی ہو، نازک، پتلا دبلا۔هَضِيمَة: دست اندازی، تاخت، یورش، دست درازی، بے انصافی، ظلم، ظلم و ستم، جبر، تعدی جور و جفا۔اِنْهِضَام: قوت ہضم، ہاضمہ، ہضم کی قابلیت۔مَهْضُوم: ہضم شدہ، قابل ہضم، مظلوم، خوف زدہ، ناجائز دست اندازی کیا ہوا۔

هضو: هَاضَى مُهَاضَاةً ہُ: کو بےوقوف جاننا، حقیر جاننا۔الهَضَاة: گیسو (ح) گدھی۔الأَهْضَاء: لوگوں کی جماعتیں۔

هطّ: هَطْهَطَ الفرسُ: گھوڑے کا ہنہنانا۔ــ الرجُلُ: تیز چلنا۔ــ في العمل: کام میں تیزی کرنا۔الهَطَاهِط (ح): گھوڑا۔

هطر: هَطَرَ -هَطْرًا الكلبَ: کتے کو لکڑی سے مار ڈالنا یا مطلق مارنا (یعنی ضرب لگانا)۔تَهَطَّرَتِ البئرُ: کنویں کا ڈھینا۔ــ الرجُلُ: ذلیل ہونا۔الهَطْرَة: اسم مرہ، امیر کے سامنے غریب کی بوقت سوال ذلت۔

۲۔تَهَطْرَسَ الرجُلُ: متکبرانہ چال چلنا۔

هطع: هَطَعَ -هَطْعًا و هُطُوعًا: ڈر سے جلدی جلدی آگے آگے چلنا، ایک ہی طرف ٹکٹکی لگائے ہوئے چلنا۔أَهْطَعَ في السير: ڈر سے جلدی جلدی چلنا۔ــ البعيرُ: اونٹ کا گردن دراز کر کے جلدی چلنا۔اِسْتَهْطَعَ البعيرُ في سيره: اونٹ کا دوڑنا۔الهَطِيع: چوڑا راستہ۔ناقةٌ هُطُعَى: تیز رفتار اونٹنی۔المُهْطِع (فا): ذلت و عاجزی سے ایک طرف ٹکٹکی لگانے والا

۞ أَهْطَعَ: چلتے ہوئے گردن باہر یا آگے کو نکالنا۔أَهْطَعَ في العدو: تیز دوڑنا۔

هطف: هَطَفَ -هَطْفًا الراعي: دودھ دوہنا (چرواہے کا)۔ــت السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔الهَطِف: شدید بارش۔

هطل: ۱۔هَطَلَ -هَطْلاً و هَطَلاَنًا و تَهْطالاً المطرُ: بارش کا موسلا دھار اور پیہم برسنا۔صفت هَاطِل مونث هَاطِلَة جمع هُطَّل۔ــ الجريُ الفرسَ: دوڑ کا گھوڑے کا پسینہ نکالنا، بہانا۔ــت العينُ بالدمع: آنکھ کا آنسو بہانا۔ــتِ الناقةُ: اونٹنی کا کمزور رفتار سے چلنا۔ــ الرجُلُ: آدمی کا اپنی ضرورت کیلئے پیدل چل کر جانا۔تَهَطَّلَ المطرُ: موٹی موٹی بوندوں کی بارش کا پیہم برسنا۔تَهَاطَلَ القومُ على كذا: ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔الهَاطِل (فا): کنجان گھتی۔الهَطْل (مص): لگاتار ہلکی بارش، جھڑی، تھکن۔دِيمَةٌ هُطُلٌ: موٹی موٹی بوندوں کی جھڑی۔الهَطِل: بڑی بڑی بوندوں کی لگاتار بارش۔کہا جاتا ہے مطرٌ هَطِل و سَحاب هَطِل: بڑی بڑی بوندوں کی لگاتار بارش، بڑی بوندیں برسانے والا بادل۔الهَطّال من المطر و السحاب: زور سے برسنے والی موسلا دھار بارش، بڑی بڑی بوندیں برسانے والا بادل۔دِيمَةٌ هَطْلاءُ: بڑی بڑی بوندوں والی بارش۔(سحابٌ أهطل: نہیں کہا جاتا۔جس طرح کہتے ہیں فرس روعاء: (زیادہ حیرت انگیز گھوڑی) مگر گھوڑے کو فرس أروع نہیں کہتے اور جس طرح عورت کو امرأة حسناء: (خوبصورت عورت) کہتے ہیں۔مگر اسی طرح مرد کو رجل احسن نہیں کہتے)۔ناقة هَطْلَى: آہستہ چلنے والی اونٹنی۔کہا جاتا ہے مشت الظباءُ هَطْلَى: غزال آہستہ چلے۔إبِلٌ هُطْلَى و هَطَلَى: بغیر شتربان کے آزاد چھوڑے ہوئے اونٹ۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

٢۔ الهطل: چور۔ (ح): بھیڑیا، احمق۔ الهَيْطَل جمع هَيَاطِل و هَيَاطِلَة (ح): لومڑی، نمازیوں کی ایک چھوٹی جماعت۔ ماوراء النہر کا علاقہ، ترکوں یا ہندوستانیوں کی ایک جنس۔ الهَيْطَلَة: پتیل یا تانبے کی دیگچی۔ (فارسی لفظ)

٣۔ هَطْلَسَ الشيءَ: تمام چیز لے لینا۔ تَهَطْلَسَ اللصُّ: چور کا حیلہ کرنا۔ ــــ المريضُ من عِلّته: مریض کا مرض میں افاقہ پانا۔ الهَطْلَس و الهِطْلَس: راہزن چور۔ (ح): بھیڑیا، بڑا لشکر۔

هَطَلَ ـ هَطْلاً و هَطَلاناً و تَهْطالاً و تَهَاطَل: (بارش کا) موسلا دھار برسنا، زور سے برسنا، بارش کا زوروں سے ہونا یا پڑنا۔ هِطْل: بھیڑیا۔ هُطُول الامطار: شدید بارش، موسلا دھار بارش، بوچھاڑ۔ هَيْطَل جمع هَيَاطِلَة و هَيَاطِل: لومڑ، روباہ۔

هطو هَطَا يَهْطُو هَطْواً بكذا: کو پھینکنا۔ الهُطَى: پچھاڑ، کشتی لڑنا، سخت جدوجہد، سخت چوٹ۔

هعّ: هَعَّ ـ هَعّاً و هَعَّةً: قے کرنا۔

هفّ: هَفَّ ـ هَفّاً و هَفِيفاً تِ الريحُ: ہوا کا سائیں سائیں کرکے چلنا۔ ــــ الشيءُ: سبک اور چمکدار ہونا۔ ــــ الرجلُ: تیز چلنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: هَفَّتْ نفسُهُ إلى الشيءِ: اس کا دل کسی چیز کی طرف مائل ہوا۔ إهْتَفَّتْ أُذُنُهُ: کان کا سائیں سائیں کرنا۔ ــــ السرابُ: سراب کا چمکنا۔ کہا جاتا ہے: هَفَّتْ هافَّةٌ من الناس: قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کی جماعت آ گئی۔ الهِفُّ: ہلکا پھلکا آدمی (کہا جاتا ہے رجلٌ هِفٌّ) خالی یا کم شہد کا چھتہ۔ ہر ہلکی کھوکھلی چیز، کھیتی جس کی کٹائی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اس کے دانے بکھر جائیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں۔ واحد هِفَّة: پانی کے بڑے بڑے کالے کیڑے۔ سحابٌ هِفٌّ: پتلا پانی سے خالی بادل۔ شَهْدَةٌ هِفٌّ: بے شہد چھتہ یا کم شہد چھتہ۔ کہا جاتا ہے: ما في بيتك هُفّة ولا سُفّة: تمہارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ الهَفّاف: چمکدار، چمکیلا، چمکنے والا۔ ــــ من الأجنحة: پرواز میں ہلکا پرندہ۔ ــــ من القُمُص: پتلی شفاف قمیص۔ ــــ من الحُمُر: ہلکا، بے پروا گدھا۔ ــــ من الظلال: ٹھنڈا سایہ، گھنا سایہ۔ رجلٌ هَفّافُ القميص: ہلکا پھلکا آدمی۔ الهَفّافة: هَفّاف کا مؤنث۔ ريحٌ هَفّافة: خوشگوار یا تیز چلنے والی ہوا۔ الهَفّان: کھوج، نشان۔ کہا جاتا ہے: جاءَ على هَفّانِهِ: وہ اس کے نشانات قدم پر آیا۔ جاريةٌ مُهَفْهَفَة: پتلی کمر کی لڑکی۔

٢۔ هَفْهَفَ هَفْهَفَةً الرجلُ: پتلے بدن والا اور نازک اندام ہونا۔ ــــ الشيءَ: چیز کو ہلانا۔ تَهَفْهَفَ الرجلُ: پتلے بدن والا اور نازک اندام ہونا۔ ظلٌّ هَفْهَفٌ: ٹھنڈا سایہ جس میں سرد ہوا چل رہی ہو۔ الهَفْهَاف: پتلے پیٹ والا، پیاسا۔ ــــ من القُمُص و الأجنحة: پتلا شفاف کپڑا، پرندہ۔ ظلٌّ هَفْهَافٌ: ٹھنڈا ہوادار سایہ۔ غُرْفةٌ هَفْهَافة: سایہ دار ٹھنڈا کمرہ۔ المُهَفْهَف دم مُهَفْهَفَة: پتلے پیٹ اور باریک کمر والا۔

هَفَّ ـ هَفِيفاً: تیزی سے گزرنا، ناچتے کودتے پھرنا، شعلہ فشاں ہونا، ہلکے سے چھونا۔ ــــ هَفّاً و هَفِيفاً: ہوا کا چلنا، ہوا کا سائیں سائیں کرنا، (خوشبو کا) پھیلنا۔ هَفَّتْ نفسُهُ إلى: وہ کسی چیز وغیرہ کا مشتاق یا آرزومند ہوا۔ هَفَّ على بالِه: اس کے دل میں اچانک خیال آیا کہ، اس کے دل میں بجلی کی طرح یہ خیال کوندا کہ۔ هِفّ: خالی، سبک سر، بہکا ہوا، بے عقل، بے فکرا، خالی دماغ، باولا، سنکی، خفیف، ہلکا، غیر سنجیدہ۔ هَفَّاف: شعلہ فشاں، نور افشاں، چمکتا ہوا، چمکیلا، چلتی ہوئی (ہوا) ہلکا، پھلکا، ناپائیدار، رواں، گذراں، باریک اور شفاف، صاف، چمکدار، جس کے پار نظر آسکے۔ الهُفُوف: سعودی عرب کے ضلع الحسا کا ایک بڑا شہر۔ مِهَفَّة: پنکھا، پردار جھاڑن۔ مَهْفُوف: بے فکرا، خالی دماغ، باولا، سنکی، غیر ذمہ دار، ناعاقبت اندیش، لاپرواہ، بے ایمان، بددیانت۔

هَفْهَفَ: چھریرا ہونا، پتلا دبلا ہونا، ہوا میں تیرنا۔ تَهَفْهَفَ: چھریرا ہونا، پتلا دبلا ہونا۔ هَفْهَفَة: (ہوا کی) سائیں سائیں، سرگوشی۔ هَفْهَاف: چھریرا، پتلا دبلا، نازک اندام، چھوٹا، تھوڑا، معمولی، کمزور، خوبصورت اور کمزور، نرم ملائم، باریک، چھدری (داڑھی) شفاف، ہلکا، بے وزن، بہتا ہوا، لہراتا ہوا، لہلہاتا ہوا، پھڑ پھڑاتا ہوا، اضطراب میں ادھر ادھر پھرنے والا۔ مُهَفْهَف: پتلا دبلا چھریرا، نازک، نازک اندام، باریک۔

هفت: هَفَتَ ـ هَفْتاً و هُفَاتاً الشيءُ: ہلکے پن سے چیز کا اڑنا، پست ہونا، پتلا ہونا۔ ــــ الرجلُ: ناسمجھی سے بہت بولنا۔ تَهَافَتَ على الشيءِ: پر لگاتار گرنا۔ اس کا اکثر استعمال برائی کے بارے میں ہے۔ یعنی برائی پر گرنا۔ ــــ الفراشُ على النار: پروانے کا آگ پر گرنا۔ ــــ الناسُ على الماء: لوگوں کا پانی پر بھیڑ کرنا۔ ــــ القومُ: لوگوں کا مر کر گرنا۔ ــــ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہو کر ... اِنْهَفَتَ الشيءُ: چیز کا پست ہونا، ذلیل ہونا۔ الهَفَات: احمق۔ الهَفْت (مص): پست زمین، بہت بے وقوفی ٹکڑے ٹکڑے ہوکر گرنا۔ ــــ من المطر: جلدی برسنے والی بارش۔ الهَفِيتَة من الناس: بھوک اور سختی کے مارے ہوئے لوگ۔ المَهْفُوت: متحیر، حیران۔

هَفَتَ ـ هَفْتاً و هُفَاتاً: گرنا، دھڑام سے گرنا، دفعۃً گرنا، بیہودہ ہونا، بیہودہ گفتگو کرنا۔ تَهَافَتَ عَلَى: پر جھپٹا مارنا، کی طرف تیزی سے جانا، پر گرنا، میں یکا یک گھس آنا، میں یا پر ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا، کی بھیڑ لگ جانا، کی طرف مل کر جانا۔ تَهَافَتَ: ایک دوسرے پر الٹ کر یا بری طرح گرنا، ہارنا، ٹوٹ جانا، ہار ماننا، اطاعت قبول کرنا، دھڑام سے گرنا، اعصاب کا ٹوٹنا۔ هَفْتَان: کمزور، تھکا ماندہ، خرچ شدہ، کمزور شدہ۔ تَهَافُت: گرنا، ٹوٹنا، نقاہت، صحت کا گرنا۔ تهافت الاعصاب: اعصابی کمزوری۔ هَافِت: غلط (رائے)۔ مَهْفُوت: پریشان، حواس باختہ، حیران۔

هفك: تَهَفَّكَ: مضطربانہ سست چال چلنا۔ المُتَهَفِّك (فا): مضطرب سست رفتار شخص۔ ــــ و المُهَفَّك: بہت غلطیاں کرنے والا، بہت خطائیں کرنے والا، گڑبڑ کرنے والا۔

هفو: هَفَا يَهْفُو هَفْواً و هُفُوّاً و هَفْوَة و هَفَوَاناً: جلدی چلنا۔ ــــ الطائرُ: پرندہ کا پر پھڑ پھڑا کر اڑنا۔ ــــ الرجلُ: پھسلنا، بھوکا ہونا۔ ــــ هَفْواً و هُفُوّاً تِ الريشةُ او الصُّوفَةُ في الهواءِ: پر یا اون کا ہوا میں اڑ جانا۔ ــــ تِ الريحُ بالصوفة: ہوا کا اون کو اڑا لیجانا۔ ــــ الفؤادُ: دل دھڑکنا، کسی چیز کا گرویدہ ہونا۔ ــــ فلانٌ: اوچھا ہونا۔ ــــ الظليمُ: شترمرغ کا دوڑنا۔ ــــ تِ الريحُ بالمطر: بارش کو ہوا کا اچک لینا، اڑا لیجانا۔ کہا جاتا ہے: هَفَا القلبُ من الحزن او الطرب: دل کا غم پراگندہ یا خوشی سے قابو میں نہ رہنا۔ هَفِيَ ـ هَفَاءً المالُ: قرض خواہوں کے پاس مال کا ضائع ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں: هَفِيَ فلانٌ هَفَاءً: وہ سخت بھوکا تھا۔ هَفْيَان: بہت بھوکا۔ هَافَى مُهَافَاةً هُ: کو خواہش کی طرف مائل کرنا۔ الهَافِي (فا): بھوکا۔ الهَافِيَة جمع هَوَافٍ: هافی کا مؤنث۔ هَوَافِي الإبلِ: گم شدہ اونٹ۔ الهَفَا: برس کر رک رک جانے والی بارش، جلد گزر جانے والی بارش، آنی جانی بارش۔ الهَفَاء: ہوا کا بارش کو اچک لیجانا۔ غلطی، لغزش۔ الهَفَاة: بارش۔ رجلٌ هَفَاة: احمق۔ الهَفْوَة جمع هَفَوَات: لغزش۔ الأَهْفَاءُ: بیوقوف لوگ۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

○ هَفَا ـهَفْوًا و هَفْوَةً و هَفَوَانًا: پھسلنا، بھولنا، سہو کرنا، غلطی کرنا، خطا کرنا، غلط ہونا، بھوک سے کمزور ہونا، بھوکوں مرنا، فاقے کرنا ۔ إلي: کی طرف تیزی سے جانا، کیلئے تیزی سے پہنچنا، کو چھینے کی کوشش کرنا، ۔ ب الي: کو پراُکسانا، کو کچھ کرنے کی ترغیب دینا۔ ۔ هَفْواً و هُفُوًّا: اڑنا، پر پھڑ پھڑانا، ہوا میں تیرنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، بے کلی سے دھڑکنا، پھڑ پھڑانا، جذبات سے پرجوش ہونا، جذباتی ہونا (خصوصاً محبت کی وجہ سے)۔ ۔ إلي: کے لئے خواہش محسوس کرنا، کا مشتاق یا آرزومند ہونا، کی آرزو ہونا، کی آرزو میں مرنا۔ هَفْوَةٌ هَفَوَات: لغزش، غلطی، بھول چوک، سہو، فروگذاشت، خطا، قصور، جرم، گناہ۔ هَافٍ: فاقہ زدہ، فاقہ کش۔ هِكْتَار جمع هِكْتَارَات: ایک ہزار میٹر مربع زمین، ہیکٹر۔

هق. هَقَّ ـهَقًّا الرجُلُ: بھاگنا، بھاگ جانا۔

هقع: ۱۔ هَقَعَ ـهَقْعًا الفرسَ: گھوڑے کو داغ لگانا۔ تَهَقَّعَ الرجُلُ علينا: (ہمارے سامنے) بیوقوف بننا، تکبر کرنا، گھٹونا کام کرنا۔ الهَقْعَة: هقع کا اسم مرة۔

۲۔ تَهَقَّعَ: اندھا ہونا۔ إنْهَقَعَ الرجُلُ: بہت بھوکا ہونا۔ إهْتَقَعَت الحُمَّى فلانًا: کو بخار ایک دن چھوڑ کر چڑھنا۔ ۔ الشيءُ فلانًا: چیز کا کسی کے پاس لوٹ آنا۔ أُهْتُقِعَ لونُهُ: کا خوف یا گھبراہٹ سے رنگ تبدیل ہو جانا۔ الهُقَاع: غم یا بیماری سے پیدا شدہ غفلت

۳۔ إهْتَقَعَ هُ: روکنا، منع کرنا۔ کہا جاتا ہے: اهتقع فلانًا عِرقُ سوءٍ: فلاں کو اس کی بداصلی نے شرف اور بھلائی تک پہنچنے سے روک دیا۔ الهَقِع م هَقِعَة: حریص۔

۴۔ الهَقْعَة: گھوڑے کے سینے کے وسط میں دائرہ (فلک)، جوزاء کے پہلو پر تین پتھروں کے چولہے کی طرح ایک دوسرے کے قریب تین چمکدار ستارے۔ الهُقَعَة: لوگوں کے درمیان بہت ٹیک لگانے یا لیٹنے والا۔ الهَيْقَعَة: تلواروں کی کھٹا کھٹ، جھنکار۔ (کہا جاتا ہے: سمعتُ للسيوف هَيْقَعَةً: میں نے تلواروں کی کھٹا کھٹ یا جھنکار سنی۔) آواز سننے کے لئے خشک چیز کو خشک چیز پر مارنا یا لوہے کو پتھر سے مارنا۔ المُتَهَقِّع من الخيل: وسط سینہ پر دائرہ رکھنے والا گھوڑا۔

هقل: الهَاقِل (ح): چوہا۔ الهِقْل م هِقْلَة: جوان شتر مرغ، لمبا بیوقوف۔ الهَقِل: بھوکا۔ الهَيْقَل: جوان شتر مرغ، گودا۔ الهَيْقَلَة: ایک قسم کی چال۔ کہا جاتا ہے: احذ يمشي الهيقلة: وہ ایک طرح کی چال چلنے لگا۔

هقم: هَقِمَ ـهَقَمًا: سخت بھوکا ہونا۔ صفت: هَقِم بہت کھانے پر بھی بدہضمی میں مبتلا نہ ہونا۔ تَهَقَّمَ هُ: کو مغلوب کرنا۔ ۔ الطعامَ: کھانے کو برابر بڑے بڑے لقموں سے نگلنا۔ الهِقَمُّ: سمندر، پیٹو، بسیار خور۔ الهَيْقَمُ: کشادہ سمندر، سمندر کا شور۔

هقي: هَقَى يَهْقِي هَقْيًا: بکواس کرنا۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ يَهْقِي بفلان: فلاں شخص، فلاں شخص کے ساتھ بیہودہ گوئی کرتا ہے)۔ ۔ فلانًا: کو دشنام دینا۔ ۔ فؤادَهُ: کا دل دھڑکنا، گرویدہ ہونا۔ أَهْقَى إهْقَاءً هُ: کو خراب کرنا۔

هك: هَكَّ ـهَكًّا: گوز کرنا۔ ۔ الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ ۔ النعامُ: شترمرغ کا پاخانہ کرنا۔ ۔ اللبنَ: دودھ نکالنا۔ ۔ الشيءَ: کو پیسنا۔ (پسی ہوئی چیز مَهْكُوك اور هَكِيك)۔ ۔ هُ بالرمح: کو متواتر نیزہ مارنا۔ ۔ هُ بالسيف: کو تلوار مارنا۔ ۔ النبيذُ فلانًا: کو نبیذ کا متوالا کرنا۔ ۔ فلانًا: کو لاغر و دبلا کرنا۔ ۔ النجّارُ الخرقَ: بڑھئی کا سوراخ کو وسیع کرنا۔ ۔ تِ البئرَ: کنویں کا ڈھینا۔ هُكَّ الشيءُ: چیز کا گرایا جانا۔ تَهَكَّكَ الرجُلُ: مضطرب ہونا۔ ۔ تِ الأُنثى: مادہ کے جننے کا وقت قریب آنا اور اس کے تھن کا بڑا ہو جانا۔ إنْهَكَّ البعيرُ: اونٹ کا بیٹھتے وقت زمین سے چٹ جانا۔ ۔ الرجُلُ: نبیذ سے مست ہونا۔ ۔ تِ البئرُ: کنویں کا ڈھے جانا۔ کہا جاتا ہے: ما يَنْهَكُّ يفعل كذا: وہ ایسا کرتا رہتا ہے۔ احمقُ هَاكٌ: بہت بے وقوف۔ الهَكُّ (مص) جمع هَكَكَة و أَهْكَاك: فاسد العقل، سخت بارش۔ رجلٌ هَكَّاكٌ بالكلام: بے بنیاد کو صحیح سمجھ کر بولنے والا۔ الهُكُوك: کمزور، ہنسی مذاق کرنے والا، سخت بری حالت میں، بدذات۔ الهَكَوَّك: ہنسی مذاق کرنے والا، نرم جگہ۔ الهَكِيك: پسا ہوا، مخنث۔ المُنْهَكَّة: دشواری سے بچہ جننے والی عورت۔ المَهْكُوك (مفع): ہنسی مذاق کرنے والا۔

۲۔ الهَكَوَّك: موٹا، سخت جگہ۔

هكب: هَكَبَ ـهَكْبًا به: سے مذاق کرنا۔

هكد: هَكَّدَ علي غريمه: مقروض پر تشدد کرنا، دباؤ ڈالنا۔

○ هَكَذَا: ایسے، اس طرح، اسی طرح، یوں۔

هكر: ۱۔ هَكَرَ ـو هَكِرَ ـهَكْرًا و هِكْرًا و هَكَرًا من كذا: پر بہت تعجب کرنا۔ تَهَكَّرَ: حیران و متعجب ہونا۔ الهَكِر: متعجب، متعجب۔ کہا جاتا ہے: ما فيه مَهْكَر او مَهْكَرَة: اس میں کوئی تعجب نہیں۔

۲۔ هُكِرَ ـهَكْرًا و هَكَرًا: کو اونگھ آنا۔ الهَكِر و الهَكْر: اونگھنے والا۔

هكع: هَكَعَ ـهُكُوعًا: ٹھہرنا، آرام کرنا، مطمئن ہونا۔ ۔ تِ البقرُ تحت الشجر: شدت کی گرمی میں گائیوں کا درخت کے سایہ میں آرام لینا۔ ۔ الرجُلُ: اقامت کرنا، (کہا جاتا ہے: ذهب فلانٌ فما يُدرى اين سكع و اين هكع: کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا اور کہاں ٹھہرا)۔ ۔ الليلُ: رات کا اندھیرا پھیلانا۔ ۔ فلانٌ بالقوم و إلي القوم: شام کے بعد قوم میں اترنا۔ ۔ الرجُلُ: غم یا غصہ سے سر جھکانا۔ ۔ إلي الارض: زمین کی طرف جھکنا۔ ۔ عظمُهُ: (کی) ہڈی درست ہونے کے بعد ٹوٹنا۔ هَكِعَ ـهَكَعًا و اهتكع: گھبرانا، مطیع ہونا، خاکساری کرنا۔ الهُكَعَة: احمق۔ الهُكَاع: کھانسی، تکان کے بعد کی نیند۔ الهُكُوع: درخت کے سایہ میں آرام لینے والا گائیوں کا گلہ۔

هكل: هَكَّلَ تَهْكِيلًا الحصانُ و المرأةُ: گھوڑی اور عورت کا متکبرانہ چال چلنا۔ هَيْكَلَ الزرعُ: کھیتی کا بڑھنا، دراز ہونا۔ تَهَاكَلَ القومُ: قوم کا کسی امر میں جھگڑنا۔ الهَيْكَل جمع هَيَاكِل: اونچی عمارت، موٹا جانور، گرجے کی قربان گاہ، صورت، مجسّمہ، بت۔ ۔ واحد هَيْكَلَة جمع هَيَاكِل: لمبی، بڑی نباتات یا درخت۔ فرسٌ هَيْكَلٌ: دراز قد گھوڑا (یونانی لفظ)۔ الهَيْكَلُ العظمي: ہڈیوں کا ڈھانچہ، پنجر، (یونانی لفظ جس کا اصلی معنی خشک لاش ہے)۔

○ هيكل: مندر، معبد، شوالہ، عبادت گاہ، خانہ خدا، گرجا، بڑی عمارت، شاندار عمارت، حویلی، عالی شان مکان، قربان گاہ، ڈھانچہ، پنجر، عمارت کی بنیاد، جسم، چوکھا (گاڑی وغیرہ کا)، بہت ہی بڑا، عظیم، جن کا جن، بہت وسیع، بہت ضخیم۔ مُنَاوَرَة هَيْكَلِيَّة: جیالا داؤں، چال، بنیادی مشق۔

هكم: هَكَّمَ تَهْكِيمًا فلانًا و لفلان: کسی کے لئے گیت گانا۔ تَهَكَّمَ تِ البئرُ و نحوها: کنویں وغیرہ کا ڈھینا۔ ۔ فلانًا و بفلان: کے ساتھ مسخری کرنا۔ ۔ زيدًا: زید کو پے در پے نیزہ مارنا۔ ۔ الرجُلُ: مغرور ہونا، جھوٹا بننا، تجاوز کرنا۔ ۔ علي فلان: پر بہت غصے ہونا۔ ۔ علي الامر الفائت: کسی گزرے معاملہ پر نادم ہونا، افسوس کرنا۔ ۔ المطرُ: نا قابل برداشت بارش ہونا۔ ۔ فلانٌ: گانا۔ ۔ لفلان: کے لئے گانا۔ ۔ بفلان: کو بہت یاد کرنا۔ الهَكِم: غیر مفید کام میں پڑنے والا شریر۔ الأُهْكُومَة:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ٹھٹھا،تمسخر۔ المُستَهکِد متکبر۔

۲۔ نَهَکَم منہدم ہونا،بغیرمرمت کے چھوڑاہواہونا،ٹوٹا پھوٹا ہونا، مرمت طلب ہونا، خراب، خستہ یا بودا ہونا، نیچے گر پڑنا، ڈھینا، مسمار ہونا۔ ــــ ہ/ب / علی: کا مذاق اڑانا، سے تمسخر کرنا، کی ہنسی اُڑانا، کی تضحیک کرنا، سے ٹھٹھا کرنا، پر ہنسنا، کو چھیڑنا، پر طنز کرنا، چوٹ کرنا۔ ــــ علی پر ناراض ہونا، پرافسوس کرنا۔ اُهکُومَة: استہزاء، تحقیر، مذاق، تمسخر، تضحیک، طعنہ زنی، طعنہ پھبتی، آوازے کسنا، لعنت ملامت۔ تَهَکُّم تمسخر، تضحیک، طعنہ زنی، مذاق، استہزاء، تحقیر، طعنہ، طعن، طنز، ستم ظریفی، تحریض، چبھتی ہوئی بات، جلی کٹی بات۔ تَهَکُّمِیّ استہزائی، تمسخرآمیز، حقارت آمیز، تعریضی، طنزآمیز طنزیہ، ذلت آمیز۔ مُتَهَکِّم نقل اتارنے والا، منہ چڑانے والا، مذاق کرنے والا، طعنہ آمیز، طنزیہ۔

هکن تَهَکَّنَ علی الامر الفائت گزشتہ معاملہ پر نادم ہونا۔

هکو: هَاکَی مُهَاکَاةً ہُ: کوکم عقل سمجھنا۔ الأَهْکَاءُ: حیران لوگ۔

هل: هَلْ: حرف استفہام بمعنیٰ "کیا" ہے جیسے: هل طلع النهارُ (کیادن نکل آیا؟) اور یہ نسبت ایجابیہ کے استفہام کے لئے مخصوص ہے مثلاً: هل قام زیدٌ (کیا زید کھڑا ہوا؟) تو جواب ہوگا نعم (ہاں) یالا (نہیں)۔ هل لم یقم (کیاوہ کھڑا نہیں ہوا) نہیں کہا جائے گا۔ اگر نفی سے استفہام مقصود ہو تو ہمزہ لاتے ہیں پھر ہل ایسے اسم پر بھی نہیں آتا جس کے بعد فعل ہو مثلاً: هل قام زید اور هل زیدٌ قائم: (کیا زید کھڑا ہوا۔ کیا زید کھڑا ہے) کہا جائے گا، هل زیدٌ قام (کیا زید کھڑا ہوا) نہیں کہا جائے گا۔ جملہ شرطیہ پر نہیں آتا اور نہ اس جملہ پر آتا ہے جس پر انّ حرف تحقیق داخل ہو مثلاً نہیں کہہ سکتے: هل ان قام زید تقم یا هل ان زیداً قائمٌ: بخلاف همزہ کے کیونکہ اس میں وسعت ہے۔ اگر مضارع پر داخل ہو تو اس کو مستقبل کے لئے مخصوص کردیتا ہے چنانچہ: هل تذهب الآن: (کیا تم اب جارہے ہو) نہیں کہہ سکتے۔

هلّ: ۱۔ هَلّ ـهَلاّ المطرُ: بارش کا زور سے برسنا۔ ــــ الرجُل: خوش ہونا، چلانا۔ ــ الهلال: نیا چاند نکلنا۔ ــ الشهرُ: ماہ قمری کا شروع ہونا۔ ــ ت المرأة الرغیفَ: عورت کا اپنے ہاتھ پر روٹی پتلی اور بڑی کرنا (عام عوامی زبان میں)۔ هَلَّلَ تَهْلِیلاً تسبیح پڑھنا۔ هَلِّلُویا (عبرانی لفظ) کہنا۔ لا اله الا اللّٰہ کہنا۔ ــــ الکاتبُ: کاتب کا کتاب لکھنا۔ هَالَّ هِلالاً و مُهَالَّةً الاجیرَ: مزدور کو مہینہ کے لئے نوکر رکھنا۔ اَهَلَّ اللّٰہُ السحابَ: اللہ کا بادل سے پانی برسانا۔ ــــ الهلالُ: چاند ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ ــــ الشهرُ: قمری مہینہ کا شروع ہونا۔ ــ القومُ الهلالَ: چاند دیکھ کر لوگوں کا آواز بلند کرنا۔ ــــ الرجُلُ: نئے چاند کی طرف دیکھنا۔ ــــ الشهرَ: مہینہ کا نیا چاند دیکھنا۔ ــــ الصبیُّ: بچہ کا رونے میں آواز بلند کرنا۔ ــ المُلَبّی: تکبیر بلند آواز سے کہنا۔ ــــ فلانٌ بذکر اللّٰه: کوئی نعمت پاکر یا عجیب چیز دیکھ کر اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا۔ (اَهَلَّ بالتسمیة علی الذبیحة: ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا، بسم اللہ کہنا)۔ ــ السیفُ بفلان: تلوار کا کسی کو کاٹنا۔ ــــ العطشانُ: پیاسے کا تھوک جمع کرنے کے لئے زبان کو تالو سے لگانا۔ اُهِلَّ الهلالُ: نیا چاند نمودار ہونا۔ ــــ الشهرُ: نیا مہینہ شروع ہونا، نئے مہینہ کا چاند نکلنا۔ تَهَلَّلَ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ ــ ت دموعُهُ: کے آنسو بہنا۔ ــ الوجه او السحابُ: چہرے یا بادل کا چمکنا۔ ــــ فلانٌ: کے چہرے کا خوشی سے دمکنا۔ اِنْهَلَّ المطرُ: زور سے تڑاتڑ بارش برسنا۔ ــ ت السماءُ بالمطر: آسمان کا بارش برسانا۔ ــــ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِهْتَلَّ المطرُ: زور سے تڑاتڑ بارش برسنا۔ ــــ الوجهُ و السحابُ: چہرے یا بادل کا چمکنا، دمکنا۔ ــ الرجلُ: ہنسنے میں دانت ظاہر کرنا۔ اِسْتَهَلَّ المطرُ: زور سے تڑاتڑ بارش برسنا۔ ــ تِ السماءُ: آسمان کا پہلی بارش برسانا۔ ــــ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ ــــ القوم الهلالَ: لوگوں کا ہلال دیکھنا۔ ــــ الهلالُ: ہلال ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ ــ الشهرُ مہینہ شروع ہونا۔ ــ الشهرَ: مہینہ کا نیا چاند دیکھنا۔ ــ الوجهُ: چہرے کا خوشی سے دمکنا۔ ــــ الصبیُّ: بچہ کا پیدائش کے وقت زور سے رونا، ہر بولنے والے کا اپنی آواز کو اونچا کرنا۔ ــ قصیدتَهُ: اپنی نظم شروع کرنا۔ اُسْتُهِلَّ الهلالُ: نیا چاند دکھائی دینا۔ ــــ السیفُ: تلوار کا نکالا جانا۔ الهِلّ: قمری مہینہ کا آغاز۔ کہا جاتا ہے: اتیتهُ فی هِلّ الشهر: میں اس کے پاس مہینہ کے شروع میں آیا۔ الهَلّ (مص) باریک بال، کپڑا۔ الهِلّة کہا جاتا ہے: جاء نا فلانٌ فلم یاتنا بِهِلَّة ولا بلّة: فلاں شخص ہمارے پاس آیا اور کچھ نہ لایا۔ الهَلَّة هلّ کا اسم مرة۔ هَلَل کا واحد، چراغ دان۔ کہا جاتا ہے: اتیتهُ فی هلّة القمر: میں اس کے پاس مہینہ کے شروع [illegible] پایا۔ الهَلَل: پہلی بارش، بارشیں۔ واحد هَلَّة مکڑی کا جالا۔ الهِلَل: بارشیں، واحد هِلّة۔ الهَلاَل: پہلی بارش۔ الهِلالُ (مص هالّ) جمع اَهِلَّة و اَهَالِیل: نیا چاند، مہینہ کے شروع سے پہلی سے تیسری یا ساتویں رات یا آخر ماہ کی دو راتوں یعنی چھبیسویں ستائسویں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور باقی راتوں کے چاند کو قمر۔ بوچھاڑ، پہلی بارش، ٹوٹی ہوئی چکی کا کنارہ، شکار کے گھاؤ لگانے کا لوہا، جوتے کا تسمہ، لاغر اونٹ، ناخنوں کی جڑوں کی سفیدی، اونٹوں کا نشان، تھوڑا پانی۔ (ح): سانپ، سانپ کی کینچلی، گرد و غبار، خوبصورت لڑکا۔ ــ عند اهل الهیئة: اہل ہیئت کے نزدیک پہلی رات کا چاند۔ الهُلّی: غم کے بعد آنے والی خوشی۔ هَلِّلُویا: عبرانی زبان کا لفظ جس کا معنی ہے: پروردگار کی تسبیح کرو۔ کہا جاتا ہے: ذهب بِهِلِّیَانَ و بِذی هِلِّیَانَ: وہ چلا گیا، لیکن پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ الهَلِیلَة: ایسی زمین جو بارش سے سیراب ہو لیکن اردگرد کی زمینیں سیراب نہ ہوئی ہوں۔ الإِسْتِهْلاَل (مص): قصیدہ کا خوبصورت آغاز۔ الأَهَالِیل: بارشیں۔ اس کا کوئی واحد نہیں یا واحد اُهْلُول ہے۔ المُهَلِّل: کمان کی طرح جھکا ہوا۔ المُهَلِّل فا۔ ابلٌ مُهَلِّلَة: لاغر اور کمان کی طرح جھکے ہوئے اونٹ۔ المُسْتَهَلّ: قصیدے کا مطلع۔ کہا جاتا ہے: مَا احسنَ مستهلَّ قصیدته: اس کے قصیدے کا مطلع کتنا خوبصورت ہے؟۔

۲۔ هَلَّلَ تَهْلِیلاً الرجُل: آدمی کا بزدل ہونا، بھاگ جانا۔ ــ عن قِرنه: اپنے مدمقابل سے پیچھے ہٹنا۔ ــ عن شتمه: کو گالی دینے سے رکنا۔ الهَلَل: ڈر، خوف۔ کہا جاتا ہے: هلك فلانٌ هَلَلاً: فلاں شخص خوف سے ہلاک ہوگیا۔ المُهَلِّل (فا): وہ آدمی جو اپنے ہمسر پر حملہ کرے لیکن پھر بزدلی کی وجہ سے ہٹ جائے۔

۳۔ هَلاَّ: کیوں نہیں۔ هل اور لا سے مرکب ہے ماضی پر داخل ہو تو ترک فعل پر ملامت کے معنی دیتا ہے جیسے: هَلاّ آمنتَ: تو ایمان کیوں نہ لایا۔ مضارع پر داخل ہو تو کسی فعل پر برانگیختہ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے: هلا تومن: تو ایمان کیوں نہیں لاتا۔

۴۔ هَلْهَلَ النسّاجُ الثوبَ: جولاہے کا کپڑے کو باریک بننا۔ ــ الشِعْرَ: شعر عمدہ بنانا، اصلاح کرنے کے بغیر شعر جیسا بنے ویسا ہی کہہ دینا۔ ــــ الطحینَ: آٹا چھاننا۔ ــ الصوتَ: گلے میں آواز پھرانا۔ ــ الرجُل فی الامر: میں انتظار کرنا، دیر کرنا۔ الهَلْهَل زردی

maarfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بناوٹ کا کپڑا، عمدہ شعر یا باریک کپڑا۔ الهُلْهُل: برف۔ الهَلْهَال: عمدہ شعر یا باریک کپڑا۔ الهَلاهِل: بہت اور صاف پانی، عمدہ شعر یا باریک کپڑا۔

۵۔ هَلْهَلَ بفرسه: گھوڑے کو ہلا کہہ کر ڈانٹنا۔۔۔ عن الشيء: سے واپس ہونا۔ کہا جاتا ہے: هَلْهَلَ يُدرِكُه: قریب تھا کہ وہ اس کو جا پکڑے۔

○ هل: کیا۔ هل تم: خواہ، یا، آیا کیا (دو میں سے کوئی ایک)۔ هَلاّ: کیا نہیں؟ کیوں نہیں؟ هَلَّ۔ هَلاًّ: نیا چاند نکلنا، نظر آنا، دکھائی دینا۔ (مہینہ کا) شروع ہونا۔ هَلَّلَ: لا الہ الا اللہ کہنا، خوشی سے چلانا، خوش ہونا، خوش وخرم ہونا، بہت خوش ہونا، باغ باغ ہونا، پھولے نہ سمانا، مسرت کا اظہار کرنا، شادیانے بجانا۔۔۔ ل: کو زور سے تحسین وآفریں کہنا، کو خوش آمدید کہنا، کا دل بڑھانا، کی ہمت بندھانا، کی تحسین وآفریں کرنا، کو مرحبا کہنا۔ أَهَلَّ: (نیا چاند) نکلنا، خوش ہونا، بغلیں بجانا۔۔۔ ب ل: کسی دیوی دیوتا کے لئے کسی جانور کی قربانی دینا۔ تَهَلَّلَ: چمکنا، دمکنا، منور ہونا، تاباں ہونا، چہرے کا خوشی سے چمک اٹھنا، خوش ہونا، مسرور ہونا، شاداں و فرحاں ہونا، خوشی منانا۔ إنهَلَّ: بارش کا زور سے برسنا۔۔۔ في: کے ساتھ شروع کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کو شروع کرنا، کچھ کرنا، کو سلجھانا، پر حملہ کرنا، کا آغاز کرنا۔ إستَهَلَّ: (نیا مہینہ) شروع ہونا، اپنی آواز بلند کرنا۔ ۔۔۔ ہ: کو لحن سے پڑھنا، کوئی دھن بجانا، کوئی کام شروع کرنا۔ ہ ب: کو سے کھولنا، کو سے شروع کرنا، کو سے رائج کرنا۔ هِلال جمع أَهِلَّة أَهالِيل: نیا چاند، ہلال، نصف چاند، جملہ معترضہ، ہلال نما کوئی چیز۔ هِلالي: چاند کا، قمری، ہلالی شکل کا، درانتی کی شکل کا۔ هَلَل: ہول، دہشت، خوف، ڈر، ہراس، اندیشہ۔ استهلال: آغاز، شروع، ابتداء، افتتاح، تمہید، تعارف، داخلہ، روشناسی۔ إستهلالي: ابتدائی، پہلا، شروع کا، آغاز کا، تعارفی، تمہیدی۔ مُهَلَّل: ہلال شکل کا۔ مُتَهَلِّل: خوش، شاداں، فرحاں، خوش وخرم، شادمان، مسرت کا اظہار کرنے والا، شاداں، خوشی سے اترانے والا، آپے سے باہر ہونے والا، تابندہ، فروزاں، چمکدار، منور، شگفتہ، روشن، دمکتا ہوا۔ مُستَهَلّ: آغاز، شروع، ابتداء۔

هلب: ا۔ هَلَبَ۔ هَلْبًا ہ: کے بال اکھیڑنا۔۔۔ ذَنَبَ الفرس: گھوڑے کی دم کاٹنا۔ هَلِبَ۔ هَلَبًا: بہت بالوں والا ہونا۔ هَلَّبَ ہُ: کے بال اکھیڑنا۔ تَهَلَّبَ و إنهَلَبَ الشعرُ: بالوں کا اکھڑا ہوا ہونا۔ إهتَلَبَ السيفَ من غِمده: تلوار سونتنا۔ الهُلْب: واحد هُلْبة: بال، پلکیں، بعض کے نزدیک موٹی پلکیں یا دم کے بال، خنزیر کے بال۔ الهُلَب: اکھڑے ہوئے بالوں کی دمیں یا ایال۔ الهَلِب: بہت بالوں والا۔ الهُلْبة: هُلْب کا واحد: پیڑو۔ (فک): ایک ستارہ۔ هُلْبة الشهر: مہینے کا آخر۔ الأهلب: بہت بالوں والا، بے بالوں والا (ضد) ذَنَبٌ أَهْلَبُ: کٹی ہوئی دُم۔ الهَلْباء: اهلب کا مؤنث۔ رقبة هلباء: بہت بالوں والی گردن۔ فرس مَهلوبٌ: کٹی ہوئی دم والا گھوڑا۔

۲۔ هَلَبَ۔ هَلَبَاتِ السماءُ القومَ: آسمان کا قوم کو بارش سے گیلا کرنا یا قوم پر لگاتار بارش برسانا۔ أَهلَبَتِ السماءُ القومَ: آسمان کا قوم کو بارش وغیرہ سے گیلا کرنا۔ لَيلةٌ هالِبَةٌ: بارش والی رات۔ هُلْبَةُ الشتاء او الزمان: موسم سرما یا زمانہ کی سختی۔ هلبة الشتاء او الزمان: مندرجہ بالا معنی عامٌ أَهلَبُ: بہت بارشوں والا سال، سرسبزی کا سال۔ عَيشٌ أَهلَبُ: آسودہ زندگی۔ کہا جاتا ہے: وقعنا في هُلْبة هَلْباء: ہم سخت مصیبت میں پھنس گئے۔ الهِلّاب: بارش والی سرد ہوا، جنوری کے سخت سرد دن۔ عامٌ هَلّابٌ: بہت بارشوں والا سال۔ يومٌ هَلّابٌ: ہوا اور بارش والا دن۔ الهَلّابَة: بارش والی سرد ہوا۔ الهَلِيب و المُهَلَّب: جنوری کے سخت سرد دن۔

۳۔ هَلَبَ۔ هَلْبًا فلانٌ القومَ بلسانه: فلاں کا لوگوں کی ہجو کرنا، کو گالی دینا۔ هَلَّبَ القومَ بلسانه: لوگوں کی ہجو کرنا، لوگوں کو گالیاں دینا۔ الهَلّاب: مبالغہ کا صیغہ، بہت ہجو کرنے والا۔ المُهَلَّب: جس کی ہجو کی گئی ہو۔

۴۔ هَلَبَ۔ هَلْبًا الفرسُ: گھوڑے کا مسلسل دوڑنا۔ أَهلَبَ الفرسُ: گھوڑے کا لگاتار دوڑنا۔

۵۔ الأُهلوب جمع أَهالِيب: فن، طریقہ، اسلوب۔ المُهَلَّبِيّة (ط): دودھ چاول کے آٹے اور چینی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا۔

○ هَلِبَ۔ هَلَبًا: گھنے بالوں والا ہونا، بالوں سے ڈھکا ہونا۔ هَلِب: بالوں سے بھرا ہوا، لمبے موٹے بالوں والا، جھبرا، روئیں دار، بال دار۔ هُلْب: اسم جنس واحد هُلْبة: بال، سور کے سخت بال، هِلَب جمع أَهْلاب: لنگر، لنگر بیڑی، کشتی کا کنڈا۔ أَهلَب م هَلْباء جمع هُلْب: بال دار، روئیں دار، بہت بالوں والا، بالوں سے ڈھکا ہوا، گچھے دار موٹے بالوں کا۔

هلت: هَلَتَ۔ هَلْتًا الشيءَ: چیز کو چھیلنا۔ إنهَلَتَ الشيءُ: چیز کا چھلنا۔ کہا جاتا ہے: إنهَلَتَ يَعدُو: وہ چپکے سے بے خبری میں کھسک گیا۔

هلث: الهُلاث: ڈھیلا پن۔ الهَلْثَى و الهَلْثاء و الهِلْثاء و الهُلْثَة: بہت شور کرنے والی جماعت۔ الهَلْثاءَة و الهِلْثاءَة: ڈھیلا پن، بہت شور کرنے والی جماعت۔

هلج: ا۔ هَلَجَ۔ هَلْجًا: غیر یقینی خبریں دینا۔ أَهْلَجَ الشيءَ: چیز کو چھپانا۔ الهالِج (فا): پریشان خوابیں دیکھنے والا۔ الهَلْج (مص): غیر یقینی خبر، نیند کی جھپکی۔ و الهُلُج: پریشان خوابیں۔

۲۔ الهَلَج: ایک خاردار درخت۔

○ هَلِيلَج و إهلِيلَج: ہلیلہ، بڑی ہڑ، ہلیلہ کابلی جو رنگائی کے کام میں آتی ہے (myrobalan)۔ بیضوی شکل، ہلیلجی شکل وہ ہندسی شکل جو مخروط کو ترچھا تراشنے سے بنتی ہے۔ (ellipse)۔ إهلِيلَجِي: بیضوی، ہلیلجی (elliptic)، (elliptical)۔

هلز: تَهَلَّزَ الرجلُ: پھرتی سے کوئی کام کرنے لگنا، دامن چننا، چوکس ہونا۔

هلس: ا۔ هَلَسَ۔ هَلْسًا هُ المرضُ: کو بیماری کا لاغر کر دینا۔ هُلِسَ: سل کی بیماری لاحق ہو کر انسان کا مسلوب العقل ہو جانا صفت: مَهلوس۔ هَلَسَ الرجلُ: لاغر ہو جانا۔ هالَسَ مُهالَسَةً ہ: سے سرگوشی کرنا۔ أَهلَسَ المرضُ فلانًا: کو بیماری کا گھلا دینا۔۔۔ الحديثَ: بات چھپانا۔۔۔ إلى فلان: سے کوئی بات چپکے سے کہنا، مسکرانا۔ الهالِس (فا): هَوالِس کا واحد، دبلا، پتلے جسم والا، کہا جاتا ہے: رجالٌ هَوالِس: دبلے پتلے مرد۔ الهَلْس (مص): پتلا پن، لاغری، سل کی بیماری۔ الهُلاس: مرض سے کمزور لوگ، کمزور لوگ۔ الهُلاس: سل کی بیماری۔ غلامٌ مُهلَسٌ: مدہم اندھیرا۔ المَهلوس مفع: رجلٌ مَهلوسُ العقل و مُهتَلَسُه: مسلوب العقل۔

۲۔ الهِلْس: بہت بھلائی، خیر کثیر۔

○ هَلَسَ۔ هَلْسًا: بیماری کا کسی کو دبلا کرنا، لاغر کرنا، گھلا دینا۔ هُلِسَ: مدقوق ہونا، سل زدہ ہونا، دق کا مارا ہوا ہونا، سل کا مریض ہونا۔ هَلَّسَ: گھلنا، لاغر ہو جانا، پتلا دبلا ہونا، کمزور ہو جانا، (منہ کا) اترا ہونا، بیہودہ گوئی کرنا۔ أَهلَسَ: مسکرانا۔ هَلْس: لاغری، دبلا پن، گھلنا، سل (کا مرض)، دق، پھیپھڑوں کی دق، سل، بیہودگی، حماقت، بیہودہ گفتگو۔ هَلْسِنكي: ہلسنکی (فن لینڈ کا دارالحکومت)۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

هلع: هَلِعَ -هَلَعًا: گھبرانا (صفت هَلِع و هَلُوع): بھوکا ہونا۔ الهُلَع: حریص۔ الهَالِع جمع هَوَالِع (فا)۔ نعامہ هالِع: تیز رفتار شتر مرغ، مونث کے لئے نعامۃٌ هالعٌ و هالعة کہا جاتا ہے۔ شحٌّ هَالِعٌ: غمناک حرص۔ الهَـلَـع (مصـ) و الهُلَاع و الهَلَعَان لڑائی میں بزدلی۔ الهَلِع: غمگین۔ الهُلَعَة: جلد گھبرانے والا، الهَلُوع: گھبرانے والا، ڈرپوک، حریص، لالچی، مصیبتوں میں صبر نہ کرنے والا۔

ⓒ هَلِعَ -هَلَعًا: بے صبر ہونا، بے چین ہونا، تنگ آجانا، بیتاب ہونا، بے قرار ہونا، مضطرب ہونا، پریشان ہونا، مایوس ہونا۔ هَلَع: بے صبری، بے قراری، بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، خوف، اندیشہ، کھٹکا، ہول، دہشت۔ هَلِع: بے صبر، بے چین، بیقرار، پریشان، دہشت زدہ، خوفزدہ۔ هَلُوع: بے صبر، بے چین، بے قرار، پریشان، دہشت زدہ، خوف زدہ۔

هلف: الهِلَّوْف: بھاری بھرکم، سخت بدن کا، بڑی داڑھی والا، بہت بالوں والا، گھنی داڑھی، ابر آلود دن جس میں سورج نہ نکلے، زیادہ پشم والا بوڑھا اونٹ (ح) جنگلی سؤر، بہت بوڑھا آدمی، جھوٹا۔ الهِلَّوفَة: بہت جھوٹ بولنے والا، گھنی داڑھی، بڑھیا۔ الهُلْفُوف: بہت بالوں والا، غیر مہذب۔

ⓒ هِلَّوف: داڑھی والا۔

هلق: ۱۔ هَلَقَ -هَلْقًا و تَهَلَّقَ: جلدی کرنا۔

۲۔ هَلْقَمَ الشیءَ: چیز کو نگلنا۔ الهِلْقَام: موٹا، لمبا، (ح): شیر، کشادہ باچھوں والا اونٹ وغیرہ۔ ــــ و الهِلْقَمّ: بڑا سردار جو لوگوں کی دیتوں کو برداشت کرے۔ ـ و الهِلْقَامَة و الهِلِقَّامَة و الهَلَقِم: پیٹو، کھاؤ۔ الهِلْقِم: قوی، کشادہ باچھوں والا، بڑی عورت۔ کہا جاتا ہے: بحرٌ هِلْقِمٌ: بحر عظیم۔

ⓒ هَلْقَمَ ه: کو ہڑپ کرنا، نگلنا، کو بے تحاشا کھانا۔

هلك: هَلَكَ -هَلَاكًا و هُلْكًا و هُلُوكًا و تَهْلُوكًا و مَهْلَكًا و تَهْلُكَةً: ہلاک ہونا، فنا ہونا، مرنا (برے معنی میں)۔ ـت النفس فی اصطلاح المسیحیین: (عیسائیوں کی اصطلاح میں) نفس کا جہنم میں گرنا۔ ــ هَلَاكًا إلیه و علیه: کا حریص ہونا، لالچی ہونا، (کھانے پینے) کا لالچی ہونا۔ هَلَّكَ هُ: کو فنا کرنا، کھونا۔ ہلاک کرنا، تباہ کرنا۔ اَهْلَكَ ہ: کو فنا کرنا، کھونا۔ ــ المالَ: مال بیچنا۔ تَهَلَّكَ فی مشیه: مٹک کر چلنا۔ ــــ فی المفاوز: ریگستان میں آوارہ پھرنا، گھومنا۔ تَهَالَكَ علی الشیءِ: کا بہت حریص ہونا (کہا جاتا ہے: انا مُتَهالكٌ فی مودّتك: میں تمہاری دوستی (محبت) کا بہت حریص ہوں)۔ ــ فی الامر او العَدْوِ: کام یا دوڑنے کی جلدی کوشش کرنا۔ ــــ علی الفراش: فرش پر گر جانا۔ ــــ فی مشیه: مٹک کر چلنا۔ اِنْهَلَكَ و اِهْتَلَكَ: اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: مرّ یهتلك فی عدوه: وہ دوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے گزرا۔ اِسْتَهْلَكَ هُ: کو ہلاک کرنا، فنا کرنا۔ ـ المالَ: مال خرچ کرنا۔ ــــ فی الامر: کام کی جلد کوشش کرنا۔ الهَالِك جمع هَلْكَی و هُلَّك و هُلَّاك و هَوَالِك: (یہ فوارس اور نواکس کی طرح خلاف قاعدہ ہیں) ہلاک ہونے والا۔ الهَالِكَة: ہالک کا مونث، نفس حریص۔ الهَالِكِیّ: لوہار۔ الهَالُوك: سنکھیا۔ الهُلْك و الهُلُك: ہلاکت۔ کہا جاتا ہے: لاذهبنّ فإمّا هُلْكٌ و إمّا مُلْكٌ: یعنی میں جا کر رہوں گا، خواہ تخت ملے یا تختہ۔ الهُلُك: ہلاک ہونے والا نفس۔ الهَلَك: مردار کی لاش، گرنے والی چیز، پہاڑ کی چوٹی اور اس کے دامن کے درمیان کی فضا، دو چیزوں کے درمیان کی ہوا۔ ــــ واحد هَلَكَة: قحط کے سال۔ الهِلْكَة جمع هِلَكٌ: هلک کا اسم نوع۔ فلانٌ هِلْكَة من الهَلَك: فلاں شخص کمینہ ہے۔ الهَلَكَة جمع هَلَكَات: ہلاکت۔ هَلَک کا واحد۔ الهَلْكَاءُ: ہلاکت، اور دینے کے لئے کہا جاتا ہے: هَلَكَة هَلْكَاء: زبردست ہلاکت۔ الهَلَكُون و الهِلَكُون: قحط زدہ زمین، اگرچہ وہاں پانی ہو، وہ زمین جس پر عرصہ سے بارش نہ ہوئی ہو۔ کہا جاتا ہے: هذه ارضٌ هَلَكُون او هَلَكِین: یہ وہ زمین ہے جہاں عرصہ سے بارش نہیں ہوئی۔ الهَلَّاك: راستہ گم کردہ لوگ، بھکاری لوگ۔ الهَلُوك جمع هُلُك من النساء: آوارہ عورت۔ أَهْلَكُ الناس: زیادہ ہلاک ہونے والے۔ التَهْلُكَة: ہر وہ چیز جس کا انجام ہلاکت ہو۔ التَهْلُوك: ہلاکت۔ المَهْلَكَة والمَهْلِكَة والمَهْلُكَة جمع مَهَالِك: ہلاکت کی جگہ، بیابان ریگستان۔ المَهَالِك: لڑائیاں، جنگیں۔ المُهْتَلِك: دوسروں پر گذارہ کرنے والا۔ المُهْتَلِكُون: چارہ کی تلاش میں راہ گم کردہ لوگ۔ کہا جاتا ہے: طریقٌ مُسْتَهْلِكُ الوِرْدِ: دشوار گزار راستہ۔

ⓒ هَلَكَ -هَلْكًا و هُلْكًا و هَلَاكًا و تَهْلُكَةً: فنا ہونا، مرنا، نیست و نابود ہونا، تباہ ہونا، (کا) نام و نشان مٹ جانا، حرف غلط کی طرح مٹ جانا۔ هَلَّكَ و اَهْلَكَ ه: کو تباہ کرنا، برباد کرنا۔ أَهْلَكَ الحرثَ و النَسْلَ: بالکل یا تمام کا تمام تباہ کر دینا۔ تَهَالَكَ فی: میں یا کو کرنے کی کوشش کرنا، زور لگانا، جدوجہد کرنا۔ ــ علی: پر جھپٹا مارنا، پر گرنا، پر اپنے آپ کو گرانا، کے لئے جان پر کھیل کر لڑنا، کے لئے لالچ طمع یا حرص و آز سے کام لینا، کا آرزومند ہونا، کے لئے ولولہ، جوش یا گہری دلچسپی محسوس کرنا، میں سرگرمی سے لگ جانا۔ ــ: کمزور ہونا، لاغر ہونا، تھک جانا، ہار کر بیٹھ جانا، ہمت ہار دینا۔ اِنْهَلَكَ و اِهْتَلَكَ: خطرہ مول لینا، جان جوکھوں میں ڈالنا، جان پر کھیل کر کرنا۔ اِسْتَهْلَكَ فی: کی کوشش کرنا، میں جانفشانی کرنا، جدوجہد کرنا، کی انتہائی کوشش کرنا۔ ــــ ہ: کو ضائع کرنا، لٹانا، اڑا دینا، خرچ کرنا، کو کل خرچ کر ڈالنا، کو سارا استعمال کر لینا، برت ڈالنا، کو استعمال میں لانا۔ (قرضہ) چکانا، ادا کرنا۔ اُسْتُهْلِكَ: فنا ہونا، مرنا۔ هُلْك: موت، تباہی، بربادی۔ هَلْكَة و هَلَكَة: مکمل گھاٹا، خسارہ یا نقصان، تباہی، بربادی، آفت، سانحہ، مصیبت، خطرہ، سخت خطرہ کی صورت حال۔ هَلَاك: مکمل خسارہ، گھاٹا، نقصان، تباہی، بربادی، ستیاناس، ابدی نفرین، پھٹکار، عذاب۔ مَهْلَكَة و مَهْلُكَة و مَهْلِكَة جمع مهالِك: خطرناک جگہ، خطرہ کی جگہ، خطرناک صورت حال، خطرہ، سخت خطرہ۔ تَهْلُكَة: تباہی، خطرہ، خطرناک صورت حال۔ تَهَالُك علی: کے لئے جوش ولولہ، شوق سرگرمی، میں واضح دلچسپی۔ تهالك: کمزوری، تھکن، تھکاوٹ، مشقت، سخت تھکاوٹ، غنودگی۔ استهلاك: خرچ، استعمال، صرف، فرسودگی، گھسنا، قرض کی ادائیگی، بیباقی۔ اِسْتِهلاکی: استعمال کی (چیزیں وغیرہ)۔ مُسْتَهْلِك: صارف (consumer)۔ مُسْتَهْلَك: خرچ، استعمال۔ هَالِك جمع هَلْكَی و هُلَّك و هُلَّاك و هَوَالِك: فنا ہونے والا، مرنے والا، مرا ہوا، فانی، فنا پذیر، برباد ہونے کے لائق، قابل بربادی، ناپائدار، زائل ہو جانے والا، دوزخ میں جانے والا، ملعون، ناقابل تلافی طور پر برباد شدہ، ناقابل واگزاشت۔ مُهْلِك: تباہ کن، نیست و نابود کرنے والا، ضرر رساں، جانکاہ، مرجھایا ہوا، مضر، مہلک، مضرت رساں، خراب حال، خطرناک، خوفناک، جان لیوا، تباہی یا استیصال کا وسیلہ، ذریعہ یا آلہ۔ مُتَهَالِك: تھکا ہوا، خراب، خستہ، پٹا ہوا مہرہ۔ هَلِّلُویا: حمد و ثنا۔

هلم: ۱۔ هَلُمَّ: چلے آؤ۔ (لازم)۔ هَلُمَّ شهداءکم: اپنے گواہوں کو حاضر کرو۔ یہ ایک ایسا اسم فعل ہے جس میں واحد، جمع، تذکیر و تانیث یکساں ہے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اسے فعل بنا کر متصرف کی شکل دیتے ہوئے اس کے ساتھ ضمیریں لگاتے ہیں چنانچہ تثنیہ کی صورت میں کہتے ہیں: هَلُمَّا: مونث کی صورت میں کہتے ہیں: هَلُمِّي: مذکر کی جمع کی صورت میں کہتے ہیں: هَلُمُّوا اور عورتوں کو کہتے ہیں: هَلْمُمْنَ۔ اکثر عرب ایسا کرتے ہیں لیکن پہلی بات زیادہ فصیح ہے۔ کبھی اس کے ساتھ لام کا صلہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں: هَلُمَّ لَكَ و هَلُمَّ لكما: جیسے کہتے ہیں هيت لک۔ کبھی اس کے ساتھ تاکید کا نون ثقیلہ بھی لگا لیتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: هَلُمَّنَّ يا رجل و هَلُمِّنَّ يا امراة و هَلُمَّانِّ يا رجلان و يا امرآتان و هَلُمُّنَّ يا رجال و هَلْمُمْنَانِّ يا نسوة۔ هَلْمَمَ هَلْمَمَةً بفلان: فلان کو هَلُمَّ کہہ کر بلانا۔ أَهْلَمَ بفلان: کو بلانا، پکارانا۔ الهَلَم: هَلُمَّ کا جواب۔ کہا جاتا ہے: جاد بهلم۔ اس نے اس کی اطاعت کی۔

۲- الهُلم (ج): پہاڑی ہرنیاں۔ الهِلَّم: ڈھیلا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ هِلَّمٌ و امراة هِلَّمَةٌ: ڈھیلا مرد، ڈھیلی عورت۔ الهَلَام (ط): بچھڑے کے گوشت پوست سے تیار کیا ہوا کھانا، سکباج کا روغن سے صاف کردہ شوربا، چپکانے والا مادہ۔ الهَلِيْم: چمٹنے والا۔ چپکنے والا۔ الهَيْلُمان و الهَيْلُمان و الهِلِمَّان: بہت چیز، بعض کے نزدیک اس کا معنی خیر کثیر ہے۔ کہا جاتا ہے: جاء نا بالهَيْلِ و الهَيْلُمان: وہ بہت مال لے کر ہمارے پاس آیا۔

☾ هلمّ: آؤ، آؤ، نہ بھئی، اب، آؤ بھی، آگے کی طرف۔ لاؤ! مجھے (ہمیں) دو!۔ هَلُمِّيَ اليه: اب جلدی سے اس کے پاس جاؤ، (مونث کو خطاب)۔ هُلُمَّ بنا: آؤ بھی، آؤ چلیں۔ و هَلُمَّ جَرًّا: وغیرہ وغیرہ، و قِس علی هذا، هِلَّم: نڈھال، تھکا ماندہ، سست، لنگڑا، کاہل الوجود۔ هُلام: جیلی (jelly)، جلاٹین (gelatin)۔ هُلامِيّ: جیلی جیسا، چپ چپا، چپ دار، لیس دار۔

هلی: ا- هَالَى مُهَالاةً ہ: سے لڑنا، سے جھگڑنا۔ الهَالِي: هائل کا الٹ۔ هلا: گھوڑے کو ڈانٹنے کی آواز۔ هَيْهَلا: دیکھو مادہ ح ی ی۔

۲- الهِلْيُوسُكُوب: آفتاب کو بغور دیکھنے کی سیاہ یا رنگین شیشوں والی دوربین۔

۳- هِلِيُز كُوبْتِر: ہیلی کاپٹر (helicopter)۔

۴- الهِلْيُوم: ہیلیم (helium) (ایک ہلکی گیس کا نام)۔

۵- الهِلْيَون: واحد هِلْيُونة (ن): مارچوبہ، ناگ دون، موصلی سفید (asparagus)۔

هم ا- هَمَّ هَمًّا و مَهَمَّةً الامرُ فلانًا: کو کسی معاملہ کا بے چین کرنا، غمگین کرنا۔ ـــ السقمُ جسمَهُ: بیماری کا جسم کو گھلا دینا۔ ـــ فلانٌ الشحمَ: فلاں کا چربی پگھلانا۔ ـــ تِ الشمسُ الثلجَ: سورج کا برف پگھلانا۔ ـــ اللبنَ: دودھ دوہنا۔ ـــ هَمًّا بالشيءِ: کسی چیز کا ارادہ کرنا، کو پسند کرنا، کا عزم کرنا، قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے: وقعتِ السُوسَةُ في الطعام فهَمَّتْهُ: کیڑا کھانے میں گر گیا اور اسنے کھانے کا گودا کھا کر اسے کھوکھلا کر دیا۔ ـــ هُمُومَةً و هَمَامَةً الرجُلُ: آدمی کا بہت بوڑھا ہونا۔ ـــ هَمًّا و هَمِيمًا تُ خِشاشُ الارض: زمین کے کیڑے مکوڑوں کا رینگنا۔ هَمَّمَتِ المراةُ في راسِ الصبي: ماں کا بچہ کو لوری سے سلانا، کی جوئیں نکالنا۔ أَهَمَّ الامرُ فلانًا: کو کسی معاملہ کا بیقرار کرنا، رنجیدہ کرنا، غم میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: أَهَمَّهُ الامرُ حتی هَمَّهُ: معاملہ نے اسے اتنا رنجیدہ کیا کہ اس کو گھلا ڈالا۔ ـــ الشيخُ: بوڑھے کا بہت بوڑھا ہونا۔ تَهَمَّمَ الشيءَ: چیز کو تلاش کرنا۔ کہا جاتا ہے: ذهبتُ أَتَهَمَّمُهُ: میں اسے تلاش کرتے ہوئے گیا۔ ـــ راسه: کے سر سے جوئیں نکالنا۔ إِنْهَمَّ الشحمُ او البردُ: چربی یا اولے کا پگھلنا۔ ـــ العَرَقُ في جبينه: پسینہ کا پیشانی پر بہنا۔ ـــ تِ البقولُ: ترکاریوں کا ہانڈیوں میں پکایا جانا۔ ـــ الشيخُ: شیخ کا بہت بوڑھا ہونا۔ إِهْتَمَّ الرجُلُ: غمگین ہونا۔ ـــ له بامره: اس نے اس کے معاملات کا بندوبست کرنے میں بہت محنت اور کوشش کی۔ إِسْتَهَمَّ فلانٌ: اپنی قوم کے معاملات میں دلچسپی لینا۔ إِسْتَهَمَّهُ بالامر و في الامر: کو کسی امر میں دلچسپی لینے کے لئے کہنا۔ الهامَّة جمع هَوَام: ہر زہریلا کیڑا، کبھی هوام ایسے حشرات پر بھی بولا جاتا ہے جو قاتل نہیں ہوتے۔ ابوزيك هوامُّ راسك: کیا تمہیں جوئیں تکلیف دیتی ہیں؟ یہاں هوام الرأس سے مراد جوئیں ہے۔ الهَمّ (مص) جمع هُمُوم: غم، ضروری بات جس کے کرنے کا انسان فکرمند ہو۔ کہا جاتا ہے: هذا رجلٌ هَمُّكَ من رجُلٍ: یہ شخص تمہارے لئے فلاں شخص سے کافی ہے۔ هذا رجلٌ هَمٌّ: یہ مرد اولوالعزم ہے۔ الهِمّ: دبلا پتلا۔ ـــ جمع أهمام: بہت بوڑھا آدمی۔ قدحٌ هِمٌّ: ٹوٹا ہوا پرانا پیالہ۔ الهِمَّة جمع هِمَّات و هَمَائِم: بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھی عورت۔ کہا جاتا ہے: هو رجلٌ هِمَّتُكَ من رجل: یہ شخص تمہارے لئے فلاں شخص سے کافی ہے۔ ـــ و الهَمَّة جمع هِمَم: منصوبہ، ہمت قصد ارادہ خواہش، ابتدائی ارادہ، پختہ ارادہ۔ کہا جاتا ہے: له همةٌ عاليةٌ: وہ بلند ارادہ رکھتا ہے۔ هو بعيد الهِمَّة: وہ بلند حوصلہ ہے۔ الهُمام من الثلج او الشحم جمع هِمَامٌ: پگھلی ہوئی برف یا چربی، بہادر اور سخی سردار، بلند ہمت بادشاہ۔ (ح): شیر۔ الهَمَّام: کسی کام کا ارادہ کر کے اسے کر گزرنے والا، چغلخور۔ ناقةٌ هَمُومٌ: خوش رفتار اونٹنی۔ سحابةٌ هَمُومٌ: بارش برسانے والا بادل۔ بئرٌ هَمُومٌ: بہت پانی والا کنواں۔ قَصَبٌ هَمُومٌ: ہوا سے ہلتا ہوا نرسل۔ الهَمِيم: سرایت۔ (کہا جاتا ہے: لِلشراب هَمِيمٌ في العظام: شراب ہڈیوں میں سرایت کر جاتی ہے)۔ ـــ من المطر: ہلکی بارش۔ الهَمِيمَة جمع هَمَائِم: چھوٹی چھوٹی بوندوں کی ہلکی بارش۔ التَهْمِيم: ہلکی بارش۔ المُهِمُّ (فا) جمع مَهَام: شدید معاملہ، مشغول کرنے والا معاملہ۔ المُهِمَّة جمع مُهِمَّات: مُهِمّ کا مونث۔ المُهِمَّاتُ من الامور: اہم معاملات، رنجیدہ امور۔ مُهِمَّاتُ العساكر: فوجی ذخائر، فوجی یا جنگی سامان۔ کہا جاتا ہے: لامَهَمَّة لي بذلك: میں اسے کرنے کا نہ ارادہ رکھتا ہوں اور نہ کروں گا۔ المَهْمُوم (مفع): مغموم، رنجیدہ، غمگین، پگھلا ہوا۔

۲- هَمْهَمَ هَمْهَمَةً: آہستہ بولنا، غم کی وجہ سے آواز کو سینہ میں پھرانا۔ ـــ الرعدُ: بادل کا گرجنا۔ الهَمْهَام: بہادر سخی سردار۔ (ح): شیر۔ الهَمْهامَة و الهُمْهُومَة: اونٹوں کا بڑا گلہ۔ الهَمْهَمة (م) جمع هَمَاهِم: گائیوں اور ہاتھیوں وغیرہ کی آواز، بیٹھی یا پڑی ہوئی آواز۔ الهُمْهُوم: آواز نکالنے والا۔ (ح): شیر، ہوا سے ہلتا ہوا نرسل۔ الهَمْهِيم (ح): شیر، گدھا جو اپنے سینہ میں اپنی رینگنے کی آواز پھرائے۔

۳- هَمْهَامِ (اسم فعل): کچھ باقی نہیں رہا۔

☾ هَمَّ هَمًّا و مَهَمَّةً ہ: کو بے چین کرنا، بیقرار کرنا، مشوش کرنا، رنجیدہ کرنا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا، کو مغموم کرنا، کو سوچ میں غرق کرنا، کو پہلے ہی قبضہ میں لے لینا، کو راغب کرنا، شوق دلانا، کی (میں) دلچسپی پیدا کرنا، سے غرض رکھنا، واسطہ رکھنا، کو توجہ دلانا۔ سے متعلق ہونا، سے واسطہ ہونا، سے غرض یا شوق رکھنا، سے تعلق یا سروکار رکھنا، لگاؤ رکھنا، کے دل کو لگنا، کے دل میں اتر جانا، کے دل پر اثر کرنا، کے لئے باعث دلچسپی ہونا، کے ذہن پر ہونا، معاملہ یا واسطہ ہونا، کے لئے اہم ہونا، کے لئے اہمیت رکھنا؛ کو پریشان کرنا، کو تکلیف دینا، زحمت دینا۔ ـــ ب: کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

متعلق سخت پریشان یا فکر مند ہونا، پریشان ہونا، کو ذہن میں رکھنا، کا ارادہ ہونا، کا منصوبہ بنانا، کی تیاری کرنا، کا پروگرام بنانا، کچھ کرنے پر غور کرنا، کچھ کرنے کا سوچنا۔ ــــ ب بان: کچھ کرنے کو ہونا، کو کرنے ہی لگنا، کچھ کرنے کا آغاز کرنا، کچھ کرنا شروع کرنا ــــ اٹھنا۔ أهَمَّ ہ: کو رنجیدہ کرنا، دکھ پہنچانا، کو مغموم کرنا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا، کو کسی خیال میں محو کر دینا، کے دل کو لگنا، کے دل میں اتر جانا، کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، کا لحاظ کرنا، کے ذہن پر ہونا، کا واسطہ ہونا، معاملہ ہونا، کو پریشان کرنا، کے لئے دلچسپی کا باعث ہونا، کو راغب کرنا، شوق دلانا، کی دلچسپی پیدا کرنا ــــ اہم ہونا، ضروری ہونا۔ اهتمّ ب: کی وجہ سے پریشان ہونا، رنجیدہ ہونا، کے متعلق پریشان ہونا ــــ ب (کبھی) سے دلچسپی لینا، میں مصروف ہونا ــــ ب: کے لئے تشویش محسوس کرنا، میں دلچسپی لینا، کو اہمیت دینا، میں دلچسپی رکھنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی نگرانی کرنا، پر توجہ دینا، کا نوٹس لینا، کو ذہن میں رکھنا ــــ ل ب: کے لئے، کے متعلق یا کی خاطر یا طرف سے مصیبت اٹھانا، ہر طرح کی کوشش کرنا ــــ ب: کا خیال رکھنا، کی مدد کرنا، معاونت کرنا، کو اپنی زیر حمایت لینا، کے لئے تیار رہنا، کا اہتمام کرنا، کا سوچنا۔ ل: کے متعلق پریشان ہونا، متردد ہونا۔ هَمّ جمع هُمُوم: پریشانی، تشویش، فکر مندی، وجہ تشویش، رنج یا پریشانی کا باعث، دکھ، رنج، غم، الم، ملال، اندوہ، غم کا باعث، افسوس، مصیبت، قہر، بپتا، ایذا، دکھ، تکلیف، دلچسپی، ارادہ، منصوبہ، مقصد، اہم معاملہ، وزن، لحہ، اہمیت۔ هِمّ جمع أهْمام: مونث هِمَّة جمع هِمّات و هَمائِم: خستہ حال، زار و نزار، سٹھیایا ہوا، بوڑھا۔ هِمَّة جمع هِمَم: کوشش، عالی حوصلگی، بلند نظری، اولوالعزمی، حوصلہ مندی، آرزو، تمنا، ارادہ، مقصد، منصوبہ، عزم، عزم مصمم، پکا ارادہ، استقلال، ثابت قدمی، شوق، سرگرمی، جوش، گرم جوشی، لگن، دھن، عالی منشی، عالی ظرفی، بلند مقصد، آرزو، تمنا۔ بَعِيدُ الهِمَّة و عالِي الهِمَّة: بہت اونچی باتیں سوچنے والا، دور رس مقاصد والا، عالی منش، عالی ظرف۔ هَمّام: پریشان، متردد، شائق، متمنی، شوقین، سرگرم، توانا، طاقتور، مستعد، باہمت۔ هُمام جمع هِمام: عالی منش، عالی ظرف، سخی، فراخدل، ہیرو کا (سا)، بہادر، دلبر، شجاع۔ أهَمّ: زیادہ اہم، زیادہ اہمیت کا حامل۔ أُهَيْمِيَة: اہمیت، دلچسپی۔ غَيرُ أهَمِّ الأشياء: غیر اہم۔ عَلَّق أهمية على: کو اہمیت دینا۔ كان من الأهمية بمكانٍ عظيم: انتہائی اہمیت کا حامل ہونا۔ مُهِمَّة جمع مَهامّ: اہم معاملہ، کام، فرض، فریضہ، منصوبہ، ذمہ داری، تفویض، مقصد، مشن۔ مَهامُّ الأُمور: اہم معاملات۔ مَهامُّ المَنْصِب: سرکاری فرائض، سرکاری کام۔ تَهْمِيم: لوری۔ تَهْمِيمَة: لوری۔ هامّ: اہم، بہت اہم، بہت بھاری، وزنی، سخت اہم، سنگین، سنجیدہ، قابل توجہ، دلچسپ۔ هامَّة جمع هَوامّ: چھوٹے ضرر رساں جانور یا کیڑے مکوڑے، تباہ کن کیڑے مکوڑے وغیرہ، رینگنے والا جانور۔ مَهْمُوم: پریشان، مصیبت زدہ، رنجیدہ، غمگین، غم زدہ، ملول، سوچ میں غرق، مطلبی، غرض مند، دلچسپی رکھنے والا۔ مُهِمّ: اہم، وزنی، نہایت اہم، ضروری، مہتم بالشان، سنگین، دلچسپ۔ مُهِمَّة جمع مُهِمّات: اہم معاملہ (جمع) ضروریات، شدید یا اہم ضروریات، ساز و سامان، اشیائے ضروریہ، مسالہ، سامان، ذخائر، فوجی ضروریات، رسد، بہم پہنچائی ہوئی چیزیں، اشیائے خوردنی۔ مُهِمّات حربية: جنگی سامان۔ مُهِمّات مُتَحَرِّكَة: محکمہ ریل کے انجن کے ڈبے وغیرہ۔ مُهْتَمّ ب: میں دلچسپی لینے والا، کے متعلق پریشان، متردد، پر متوجہ، کا خیال رکھنے والا۔ المُهِمّاتِ: دیئے ہوئے کام، مفوضہ کام، فرائض منصبی، وظائف۔

هُما: وہ دونوں، وہ دو۔ هُمايُوني: شہنشاہی، خسروی، خسروانہ۔

هما: هَمَأَ يَهْمَأُ هَمْأً الثوبَ: کپڑے کو کھینچ کر پھاڑنا، کپڑے کو پرانا کرنا، بوسیدہ کرنا۔ أَهْمَأَ الثوبَ: کپڑے کو پھاڑنا، پرانا کرنا۔ تَهَمَّأَ و إِنْهَمَأَ الثوبُ: کپڑے کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ الهِمْءُ جمع أَهْماء: پھٹا ہوا پرانا کپڑا۔

همت: هَمَتَ هَمْتًا الثريدُ: ثرید کا چکنائی والا ہونا۔ أَهْمَتَ الكلامَ او الضحكَ: کلام یا ہنسی کو چھپانا۔

همج: هَمَجَ هَمْجًا: بھوکا ہونا ــــ تِ الإبلُ من الماءِ: اونٹوں کا ایک بار پانی پی کر سیراب ہونا۔ صفت هَوامِج۔ أَهْمَجَ الفرسُ: گھوڑے کا پوری رفتار سے دوڑنا ــــ الشيءَ: چیز کو چھپانا۔ اِهْتَمَجَ الرجلُ: مرد کا کمزور ہونا ــــ وجهُهُ: کا چہرہ پژمردہ ہونا۔ الهامِج (فا): انبوہ جس کا کوئی قائد نہ ہو ــــ ریوڑ جس کا چرواہا نہ ہو، فوج جس کا کوئی افسر نہ ہو۔ کہا جاتا ہے هَمَجٌ هامِجٌ: رذیل لوگ۔ الهَمَج (مص) واحد هَمَجَة: بھوک، دبلی بکریاں، ایک قسم کا مچھر، چھوٹی مکھیاں [illegible] بیوقوف عامۃ الناس۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ هَمَجٌ و هَمَجَةٌ و امرأةٌ هَمَجَةٌ و رجالٌ هَمَجٌ: بیوقوف مرد، عورت اور بہت سے بے وقوف مرد۔ قومٌ هَمَجٌ: بے خبر لوگ۔ الهَمِيجُ من الظباء: جوان خوبصورت جسم کا ہرن۔ ــ من الرجال: پتلے پیٹ والا۔

هَمَج: (اسم جنس واحد هَمَجَة جمع أهْماج: چھوٹی مکھیاں، گتیاں، کمینے، گھٹیا لوگ، اراذل، بھیڑ، ہجوم، وحشی، غیر مہذب لوگ۔ هَمَج: بھوک۔ هَمَجٌ هامِجٌ: بے حد بھوک۔ هَمَجِي: غیر مہذب، وحشی، بد اخلاق، بے سلیقہ، بے ادب، بدتمیز، تیز و تند، وحشیانہ، اکھڑ، ناشائستہ، جنگلی، خونخوار وحشی۔ هَمَجِيَّة: بربریت، سنگدلی، بے رحمی، سفاکی، خونخواری، وحشیانہ حالت، تندی، بے ہودگی، بدتہذیبی، بدتمیزی، اکھڑ پن، جہالت وحشت۔

همد: هَمَدَ هُمُودًا تِ النارُ: آگ کا بجھنا، ٹھنڈا ہونا ــــ القومُ: لوگوں کا مرنا (کہا جاتا ہے کادَ يَهْمُدُ من الجوعِ: بھوک سے مرنے لگنا صفت: هامِد و هَمِدٌ و هَمِيد) ــ تِ أصواتُهم: کی آوازوں کا بند ہو جانا ــــ هَمْدًا و هُمُودًا تِ الأرضُ: زمین کا بنجر ہونا، بے آب و گیاہ ہونا ــــ شجرُ الأرضِ: درختوں کا گھٹتے گھٹتے کم ہو جانا یا ختم ہو جانا۔ ــــ الثوبُ: کپڑے کا عرصہ تک لپٹے لپٹے تہوں پر سے پھٹ جانا۔ صفت هامِد جمع هُمَّد۔ هَمَّدَ ہ: کو بجھانا۔ أَهْمَدَ في المكانِ: کسی جگہ میں اقامت کرنا ــ تِ الريحُ: ہوا کا ساکن ہونا ــ تِ الهديةُ غضبَهُ: تحفہ کا کسی کے غصہ کو دھیما کرنا ــــ فلانٌ: تکلیفوں میں چپ رہنا ــــ تِ أصواتَ القومِ: لوگوں کی آوازوں کا خاموش ہو جانا ــــ القحطُ الأرضَ: قحط کا زمین کی نباتات کو سکھا دینا۔ کہا جاتا ہے اتوا على قومٍ فأهمدوهم: وہ لوگوں پر آئے اور انہیں موت سے ہمکنار کر دیا۔ الهامِد (فا) جمع هَوامِد: متغیر بوسیدہ سیاہ خشک نباتات اور درخت، بنجر جگہ۔ الهَمْدَة: خاموشی۔ المِهْماد (اع): آواز وغیرہ کو کمزور کرنے کا آلہ۔

۲ أَهْمَدَ في السيرِ: جلدی چلنا ــــ القومُ في الطعامِ: کھانے پر ٹوٹ پڑنا ــــ الكلبُ: کتے کا تیز دوڑنا۔

هَمَدَ هُمُودًا: کم ہونا، مدھم پڑنا، گھٹ جانا، بیٹھ جانا، دب جانا، دھنس جانا، مدھم ہونا، فرو ہونا، ساکن ہونا، ختم ہونا، مرجانا، فنا ہونا، مرجھانا، سوکھنا، خشک ہونا، ٹھنڈا ہونا، چھوٹا ہو جانا، سکڑ جانا۔ هَمَّدَ و أَهْمَدَ ہ:

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کو چپ کرنا، ساکن کرنا، بند کرنا، تسکین دینا، کا جوش فرو کرنا، کو دھیما کرنا، کا غصہ ٹھنڈا کرنا، تکلیف کو کم کرنا، گھٹانا، کو دبا دینا، فرو کرنا، بجھانا۔ ھُمُود: نیستی، فنا، مٹنا، باقی نہ رہنا، (جوش وغیرہ) کا ٹھنڈا ہونا، فرو ہونا، کم ہونا، تھکن، تکان، سستی، کمزوری، ناتوانی، بے حرکتی، بے حسی، عدم دلچسپی، سختی، عدم لچک، موت۔ ھَامِد: خاموش، ٹھنڈا، ٹھنڈی، بجھی ہوئی ناپید، بے جان، سخت (لاش)۔

ھمذ: الھَمَاذِی: تیز رفتاری (کہا جاتا ہے: اِنَّہُ لَذُو ھَمَاذِیَ فِی جریہ۔ وہ دوڑنے میں تیز رفتار ہے)۔ تیز رفتار اونٹنی یا اونٹ، گرمی یا بارش کی شدت۔ ھَمَذَانُ: ایک شہر کا نام۔ الھمذانی: ھمذان کا، ھمذانی، ھمذان کا باشندہ، بہت بولنے والا، گپی، باتونی۔ — من المشی: ایک قسم کی چال کی دوسری قسم میں آمیزش۔ کہا جاتا ہے: ھو یمشی ھَمَذَانِیاً: وہ طرح طرح کی چالیں چلتا ہے۔

ھمر ۱۔ ھَمَرَ ـ ھَمْراً الماءَ: پانی گرانا۔ — الماءُ: پانی کا گرنا۔ کہا جاتا ہے: ھمرت العینُ بالدمع: آنکھ کا آنسو گرانا۔ — ما فی الضرع: تھن کا سب دودھ دوہ لینا۔ — لفلانٍ من مالِہٖ: فلاں کو اپنا مال دینا۔ — البناءَ: عمارت ڈھانا۔ — الفرسُ الارضَ: گھوڑے کا زمین کو ٹاپوں سے زور سے مارنا۔ — الکلام و فی الکلام: بہت بولنا۔ ھَامَرَ مُھَامَرَۃً الشیءَ: چیز کو لینا، لیجانا۔ اِنْھَمَرَ الماءُ: پانی کا گرنا، بہنا۔ — البناءُ: عمارت کا گرنا۔ — ت الشجرۃُ: درخت کا جھڑے ہوئے پتوں والا ہونا۔ اِھْتَمَرَ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔ — الفرسُ الارضَ: گھوڑے کا زمین کو ٹاپوں سے مارنا۔ الھَامِر (فا): سحابٌ ھامِرٌ: بہت برسنے والا بادل۔ رملٌ ھامِرٌ: بہت ریت۔ الھَمِر: موٹا آدمی۔ الھَمْرَۃُ: ھمر کا اسم مرۃ۔ بارش کی بوچھاڑ، غصہ سے بھری ہوئی گفتگو۔ الھَمَّار من السحاب: بہت برسنے والا بادل۔ — من الرجال: بہت بکواسی، لپاڑا۔ الھَمِیرَۃ و الھَمِیر: بہت بوڑھی عورت۔ المِھْمَار: مہمانوں کی بہت ضیافت کرنے والا، بہت بکواسی، لپاڑا۔ الیَھْمُور: بہت بک بک کرنے والا، بہت ریت۔

۲۔ ھَمْرَجَ علیہ الخبرَ: سے گڈمڈ خبر بیان کرنا۔ الھَمْرَجَۃ: خبر کی گڑبڑی، اختلاط آمیزش، خفت، سرعت، لوگوں کا شور، باطل۔ الھُمْرُجَان: لوگوں کا شور۔

۳۔ تَھَمْرَشَ القومُ: لوگوں کا حرکت میں آنا۔ اسم: الھَمْرَشَۃُ۔ الھَمْرَش: حرکت۔ الھَمَرِش: بہت بوڑھی عورت، بہت دودھ والی اونٹنی۔ المِھْمَار: مہمانوں کی بہت ضیافت کرنے والا، بہت بک بک کرنے والا۔ المِھْمَر: بہت بک بک کرنے والا۔ الیَھْمُور: بمعنی المِھْمار، بہت ریت۔

© ھَمَرَ ـ ھَمْراً ہ: (پانی، آنسو) گرانا، بہانا۔ اِنْھَمَرَ: گرنا، بہنا، (بارش کا) برسنا، (آنسوؤں کا) بہنا۔ ھَمْرَۃ: بارش کی بوچھاڑ، غراہٹ، غرّانا۔

ھمز: ھَمَزَ ـ ھَمْزاً ہٗ: کی چٹکی لینا، کو دبانا، کو چھونا، ہٹانا، مارنا، دانتوں سے کاٹنا، کی غیبت کرنا (صفت: ھَمَّاز و ھُمَزَۃ) کو توڑنا۔ — بہ الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا۔ — الفرسَ: گھوڑے کو مہمیز چبھونا تاکہ وہ دوڑے۔ — العنبَ او رأسَہٗ: انگور نچوڑنا۔ — الشیطانُ الانسانَ: شیطان کا انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا۔ — الکلمۃَ او الحرفَ: کلمہ یا حرف کو ہمزہ کے ساتھ بولنا یا کلمہ اور حرف پر ہمزہ لگانا۔ اِنْھَمَزَت الکلمۃ او الحرفُ: کلمہ یا لفظ کا ہمزہ کے ساتھ پڑھا جانا یا کلمہ یا حرف کا ہمزہ کی علامت والا ہونا۔ الھَامِز (فا) جمع ھُمَّاز و ھَامِزُون: بڑا عیب گیر۔ الھَمْز مص۔ ھَمْزُ الشیطان: جنون۔ (ھَمَزَاتُ الشیطان شیطانی وسوسے)۔ الھَمْزَۃ جمع ھَمَزَات: ھمزہ کا اسم مرۃ حروف تہجی کا پہلا حرف۔ الھُمَزَۃ: نکتہ چین، بہت عیب گیر۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ ھُمَزَۃٌ و امرأۃٌ ھُمَزَۃ: بہت نکتہ چین یا عیب گیر مرد اور عورت۔ ریحٌ ھَمَزَۃ: سخت آواز والی ہوا۔ قوسٌ ھَمَزَی: تیر کو دور پھینکنے والی کمان۔ الھَمَّاز: عیب گیر، طعن و تشنیع کرنے والا۔ قوسٌ ھَمُوزٌ: تیر کو دور پھینکنے والی کمان۔ رجلٌ ھَمِیزُ الفؤاد: تیز فہم آدمی۔ المِھْمَز و المِھْمَاز جمع مَھَامِز و مَھَامِیز: مہمیز، ایڑ۔ المِھْمَزَۃ: چابک، لاٹھی یا ڈنڈا جس کے سرے پر لوہے کی کیل لگی ہو۔

© ھَمْزٌ: ایڑ لگانا، آنکس مارنا، چھیڑنا، چبھونا، آگے بڑھانا، دبانا، مارنا، ضرب لگانا، ٹھوکر لگانا، لات مارنا، چغل خوری، بہتان، تہمت۔ ھَمْزٌ و لَمْزٌ: طعنے، بدنام کن یا ہتک آمیز چوٹیں یا در پردہ الزامات، آوازے، طنزیں۔ ھَمْزَۃُ الوصل بین: کے مابین تعلق پیدا کرنے والا رابطہ، تعلق واسطہ یا کڑی یا حلقہ۔ ھَمَّاز: چغل خور، غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والا۔ مِھْمَز جمع مَھَامِز: مہمیز، ایڑ، آر، آنکس، اکسانے والی چیز۔ مِھْمَاز جمع مَھَامِیز: مہمیز، ایڑ، آر، آنکس، اکسانے والی چیز۔

ھمس: ھَمَسَ ـ ھَمْساً الصوتَ: آواز کو دھیما کرنا۔ — اِلَیَّ بحدیثِہٖ: اس نے میرے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کیں۔ — الطعامَ: منہ بند کر کے کھانا چبانا۔ — الشیطانُ: شیطان کا وسوسہ ڈالنا۔ — بالقدم: قدم آہستہ رکھنا۔ — الرجُلُ: رات میں بغیر سستی کے چلنا۔ — العنبَ: انگور نچوڑنا۔ — الشیءَ: چیز کو توڑنا۔ ھَامَسَ مُھَامَسَۃً ہٗ: سے آہستہ آہستہ باتیں کرنا۔ تَھَامَسَا: آپس میں آہستہ کلام کرنا۔ کہا جاتا ہے: تھامَسُوا سِرّاً: انہوں نے تخلیہ میں آہستہ آہستہ گفتگو کی۔ الھَمْس (مص): آہستہ آواز، قدموں کی آہٹ۔ کہا جاتا ہے: ھو یطأ الارضَ ھَمْساً و یتکلم ھَمْساً: وہ زمین پر آہستہ چلتا ہے، وہ آہستہ باتیں کرتا ہے۔ ھو یأکل ھَمْساً: وہ کھاتے وقت منہ نہیں کھولتا۔ اخذتہ اخذاً ھَمْساً: میں نے اس کو سختی سے پکڑا۔ الھَمَّاس: مبالغہ کا صیغہ، سرگوشی کرنے والا، نرم خرام، شیر جو اپنے شکار کو پامال کر دے۔ الھَمُوس: رات کو چلنے والا، آہستہ قدم چلنے والا شیر، شکار کو پامال کرنے والا شیر۔ الھَمِیس: بے آواز چلنا، اونٹوں کے پاؤں کی آہٹ۔ المَھْمُوس (مفع) من الکلام: غیر واضح کلام۔ — من الحروف: آہستہ بولا ہوا حرف، نرم حرف۔ حروف مھموسہ دس ہیں جو اس قول میں آجاتے ہیں: حَثَّہٗ شَخْصٌ فَسَکَتَ۔

© ھَمَسَ ـ ھَمْساً: منہ ہی منہ میں کہنا، اس طرح بولنا کہ سنائی نہ دے، منہ بند کر کے کھانا، بڑبڑانا۔ — بـ الی: کے کان میں کچھ کہنا، سے سرگوشی کرنا۔ ھَمَسَ فی اذنہ: کے کان میں سرگوشی کرنا۔ تَھَامَسَ: آپس میں سرگوشی کرنا، سرگوشی میں کی گئی باتوں کا تبادلہ کرنا۔ ھَمْسَۃ: سرگوشی، جمع ھَمَسَات: سرگوشی کرنا، کان میں کہنا، سرگوشیاں۔ ھَوَامِس: وہ الفاظ جو سرگوشی میں کہے جائیں۔

ھمش: ھَمَشَ ـ ھَمْشاً الشیءَ: چیز کو جمع کرنا۔ — فلاناً: کسی کو دانت سے کاٹنا۔ — ھَمْشاً و ھَمِشَ ـ ھَمَشاً الرجُلُ: غلط باتیں بہت بولنا۔ — القومُ: بولنا اور حرکت میں آنا۔ — الجرادُ: ٹڈیوں کا ظاہر ہونے کے لئے حرکت میں آنا۔ ھَامَشَ مُھَامَشَۃً ہٗ: سے جلدی کرانا۔ تَھَمَّشَ الشیءُ: چیز کا کھایا جانا۔ — مُنْبَطُ البئر: کنویں کی سوت کا جاری ہونا۔ تَھَامَشَ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے میں داخل ہو کر حرکت میں آنا۔ اِھْتَمَشَ القومُ: لوگوں کا آپس میں گھل مل جانا اور آگے پیچھے ہونا۔ — ت الدابۃُ او

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الجراد: جانور یا ٹڈیوں کا آہستہ چلنا۔الھامش
(فا): کتاب کا حاشیہ۔الھَمَش (مص): کھانے کی
تیزی۔الھَمِش: انگلیوں سے پھرتی سے کام کرنے
والا۔کہا جاتا ہے امرأۃ ھَمَشَی او ھَمَشَی الحدیث:
بہت بولنے اور شور کرنے والی عورت۔الھَیبشۃ: پکائی
ہوئی ٹڈیاں۔
ھامش کسی کتاب یا صفحہ وغیرہ کا حاشیہ۔علی
ھامش کے محیط میں، کے ضمن میں، سے ایک
طرف، اس سلسلہ میں، اس ضمن میں، کے موقعہ پر،
بسلسلہ، در بارہ۔ علی ھامش الاخبار: خبروں کی
ضمنی شرحیں (بی بی سی کی خبروں پر تبصرہ کا نام)۔
ھامشی۔ حاشیہ کا، حاشیہ سے متعلق۔
ھمط: ھَمَطَ -ھَمْطاً الرجلَ: ظلم کرنا، بولنے اور
کھانے میں پروا نہ کرنا۔ــ التیءَ: چیز بے اندازہ
لینا۔ــ المال مال زبردستی لینا۔تَھَمَّطَ المالَ:
مال زبردستی لینا۔اِھتمط المال۔ مال زبردستی لینا۔
ــ عِرضَ فلانٍ: کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو گالی
دینا۔ــ الذئبُ الشاۃَ: بھیڑیے کا بکری کو پکڑ لینا۔
الھَمّاط: ظالم۔
ھمع: اھَمَعَ -ھَمْعاً و ھَمَعاً و ھُمُوعاً و ھَمَعاناً و
تَھماعاً تِ العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ھمعت
العین بالدمع: آنکھ نے آنسو بہائے۔ھمع الطلُّ
علی الشجرۃ: درخت پر شبنم کا گرنا۔ــ رأسُہ: کا
سر زخمی کرنا۔اَھْمَعَ الدمعَ و نحوہٗ: آنسو وغیرہ کا
بہنا۔ــ الطلُّ: شبنم کا درخت پر گرنا۔تَھَمَّعَ الطلُّ:
شبنم کا گرنا بہنا۔ــ الرجلُ: رونے کا بہانہ کرنا،
جھوٹ موٹ رونا۔ــ الدمعُ و نحوہٗ: آنسو وغیرہ کا
بہنا۔الھَامِعَۃ جمع ھَوامِع: ھامع کا مؤنث۔
دموع ھَوامِعُ: بہنے والے آنسو۔سحابٌ ھَمِعٌ:
برسنے والا بادل۔عینٌ ھَمِعَۃٌ: آنسو بہنے والی آنکھ۔
الھُموع: بہنے والا۔الھَیْمَع: ناگہانی موت۔
۲۔اُھْتُمِعَ لونُہٗ: کا رنگ متغیر ہونا۔
ھمغ: ھَمَغَ -ھَمْغاً رأسَہ: کا سر پھوڑنا۔اِنْھَمَغَ تِ
الرطبۃ: تر کھجور کا پھٹ جانا۔ــ ت القرحۃ: زخم کا
تر ہونا۔الھَمِیْغ: موت، ناگہانی موت۔
ھمک: ھَمَکَ -ھَمْکاً ہٗ فی الامر: کو کسی کام کے لئے
اکسانا۔تَھَمَّکَ و اِنْھَمَکَ فی الامر: کسی کام میں
بہت مشغول ہونا، منہمک ہونا۔اِھْمَاکَّ اھمیکاکاً
الرجلُ: مرد کا غصہ سے بھر جانا۔صفت مُھْمَئِکّ۔
ھَمَکَ -ھَنْکاً ہٗ فی: پر کچھ کرنے کے لئے زور دینا،
زور ڈالنا۔اِنْھَمَکَ فی: میں منہمک ہونا، مکمل طور پر
مشغول ہونا، کیلئے وقف ہونا، میں مستغرق ہونا، میں
گم، غرق یا محو ہونا، کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہونا۔ــ
فی/علی: کا ہو رہنا، کے پیچھے اندھا ہو جانا۔انہماک:
انہماک، مکمل وقف، مشغولیت، دھن، عمل انجذاب،
استغراق، محویت، مشغولیت۔مُنْھَمِک فی: میں
منہمک، مکمل طور پر مشغول، مستغرق، گم، غرق یا محو،
کیلئے وقف، کا عادی۔
ھمل: اھَمَلَ -ھَمَلاً تِ الابلُ: اونٹوں کا بغیر
چرواہے کے دن رات آزاد پھرنا۔صفت ھَامِل جمع
ھَوامِل و ھُمولَۃ و ھامِلَۃ و ھَمَل و ھُمَّل و
ھُمَّال و ھُمَلَی۔ــ ھَمَلاً و ھَمَلاناً و ھُمُولاً
ت عینُہٗ: کی آنکھ کا آنسو بہانا۔ــ تِ السماءُ:
آسمان کا بارش آہستہ آہستہ برسانا۔اَھْمَلَ ہٗ: کو قصداً یا
بھولے سے چھوڑ دینا۔ــ امرہٗ: کو پختہ نہ کرنا۔ــ
الحرفَ: حرف پر نقطے نہ لگانا۔تَھَامَلَ فی الامر:
کام میں سست ہونا، میں تاخیر کرنا، بے پروائی کرنا،
غفلت کرنا (عام زبان میں)۔اِنْھَمَلَ تْ عینُہٗ: کی
آنکھ کا آنسو بہانا۔ــ السماءُ: آسمان کا پیہم بارش
برسانا۔الھِمْل: پیوند لگا کپڑا۔الھَمَل: بے روک
بہنے والا پانی، اتارا ہوا چھلکا۔ــ من الابل: دن رات
چرواہے کے بغیر من چرنے والا اونٹ۔الھَمِلّ: سن
رسیدہ، بڑی عمر والا۔الھُمّال: ویران زمین، نرم۔
الھَمالِیل: بقیہ چارہ، پھٹا ہوا کپڑا۔المُھْمَل
(مفع) من الکلام: غیر مستعمل کلام۔ــ من
الحروف: نقطوں کے بغیر حرف۔
۲۔الھَمَل: چھوٹا گھر۔
۳۔ھَمْلَجَ ھَمْلَجَۃً البرذونُ: ٹٹو یا گھوڑے کا نرم اور تیز
چلنا، اچھی چال چلنا۔الھِمْلاج جمع ھَمالِیج:
اچھی چال چلنے والا ٹٹو یا گھوڑا۔دابّۃ ھِمْلاجٌ: اچھی
تیز چال چلنے والا جانور۔(مذکر مونث)
۴۔الھَمَلَّع مونث ھَمَلَّعَۃ: بے وفا، تیز رفتار اونٹ، تیز
چلنے والا آدمی، زمین کو زور سے روندتا جائے۔
۵۔ھَمْلَقَ ھَمْلَقَۃً: جلدی کرنا۔
ھَمَلَ -ھَمْلاً و ھَمَلاناً و ھُمُولاً: آنکھ کا آنسو
بہانا، آنسوؤں سے تر ہونا۔اَھْمَلَ ہ: کو نظر انداز کرنا،
چھوڑ دینا، پر التفات نہ کرنا، کی پروا نہ کرنا، کا لحاظ نہ
کرنا، کو نہ سوچنا یا نہ دیکھنا، پر غور نہ کرنا، سے چشم پوشی
کرنا، کو بھلا دینا، بھول جانا، کو استعمال نہ کرنا، کو
استعمال کرنا بند کر دینا، (حرف) کو بے نقطوں کے چھوڑ
دینا، یا حرف پر نقطے نہ لگانا۔تَھَامَلَ: لا پروا ہونا،
بے پروا ہونا، غفلت کرنا، نا فرض شناس ہونا۔اِنْھَمَلَ:
آنکھ کا آنسوؤں سے تر ہونا، آنسو بہانا۔(بارش کا)
برسنا۔ھَمَل: اپنے آپ پر چھوڑا ہوا، اپنے منصوبوں
پر چھوڑا ہوا، تنہا چھوڑا ہوا، چرواہے کے بغیر مویشی، نظر
انداز کیا ہوا، لحاظ نہ کیا ہوا، بے التفاتی کیا ہوا، بے
اعتنائی، بے توجہی کیا ہوا۔اِھْمال: بے پروائی، بے
توجہی، تغافل، فروگزاشت، فرائض سے لا پرواہی یا
غفلت، ترک فرض، لغزش، قصور، عدم توجہ، نہ دیکھنا،
عدم لحاظ، عدم غور۔ھَامِل جمع ھُمَّل: ادھر ادھر منہ
اٹھائے پھرنے والا، مارا مارا پھرنے والا، آوارہ گرد،
بے خانماں، خانہ بدوش۔مُھْمِل: بے پروا، غافل،
غفلت شعار، سہل انگار، فرض ناشناس، بے
توجہ، پھوہڑ، بے سلیقہ۔مُھْمَل: نظر انداز کیا ہوا، چھوڑا
ہوا، لحاظ نہ کیا ہوا، خاطر میں نہ لایا ہوا، اہمیت نہ دیا گیا،
خیال نہ رکھا ہوا، متروک، غیر مروجہ، پرانا، کہنہ، فرسودہ،
محروم، نقطوں کے بغیر (حرف)۔المُھْمَلات: دفتر
لا پتہ خط (dead letter office)۔مھمل
الامضاء: بے دستخط، دستخطوں کے بغیر۔رسالۃ
مُھْمَلَۃ: خط جو مرسل الیہ کو پہنچانے کے قابل نہ ہو۔
سَلّۃ المُھْمَلات: ردی کی ٹوکری۔کمیّۃ مُھْمَلَۃ:
نا قابل ذکر مقدار۔ھَمْلَج: دو گامہ چلنا، دلکی چال
چلنا۔ھِمْلاج جمع ھمالیج: دلکی دو گامہ چال چلنے
والا، سبک خرام (گھوڑا)۔
ھمو: ھَمَا یَھْمُو ھَمْواً الماءُ او الدمعُ: پانی یا آنسو کا
بے روک بہنا۔
ھمی: ھَمَی یَھْمِی ھَمْیاً الشیءُ: ضائع ہو جانا، گرنا۔
ــ ھَمْیاً و ھُمِیّاً و ھَمَیاناً الماءُ او الدمعُ: پانی یا
آنسو کا بے روک بہنا۔ــ ت العینُ: آنکھ کا آنسو
بہانا۔ــ ت الماشیۃ: مویشی کا چرنے کے لئے ادھر
ادھر پھیل جانا۔الھَامِیَۃ جمع ھَوامٍ: اسم فاعل
مونث۔ھَوامِی الابل: چراگاہ کے گمشدہ اونٹ۔
ھُمَایُون: (فارسی لفظ) ایک قسم کا خیالی پرندہ جس
کے بارے میں خیال ہے کہ جس کے سر پر یہ سایہ فگن
ہو جائے وہ اعلیٰ مرتبہ پر پہنچتا ہے، بادشاہ۔باب ھُمَایُون:
سلطان کا دروازہ۔الھِمْیان جمع ھَمَایِین:
(فارسی لفظ): پٹکا، کمربند، کمر سے باندھی جانے والی
تھیلی جس میں نقدی وغیرہ رکھی جاتی ہے۔
ھنّ: اھَنَّ -ھَنّاً و ھَنِیناً: رونا۔ــ الیہ: کا آرزو مند
ہونا۔الھَنّانۃ: رونے والی عورت۔
۲۔اھَنَّ الجملَ: اونٹ کو قوی کرنا۔صفت مفعولی:
مَھْنُون: یہ صفت خلاف قیاس ہے)۔الھَنانۃ و
الھُنانۃ: آنکھ کی تلی کے نیچے کی چربی۔کہا جاتا ہے:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

صابہ هَنَاةٌ: اس میں کوئی خیر نہیں۔

۳۔ هَنَّا (ہاء کی تثلیث کے ساتھ) دور جگہ کے لئے اسم اشارہ کہا جاتا ہے: تَنَحَّ هاهُنَا و هاهُنا او هَهُنَا: وہ تھوڑا دور گیا۔

☆ هُنَّ: وہ (عورتیں)۔ هُنا و هَهُنا: یہاں، یہاں پر، اس جگہ میں۔ هَنَّا: وہاں، تب، اب، اب تک، اس جگہ۔ الی هُنا یا لِهُنا: یہاں، یہاں پر، اسجگہ تک، یہاں تک، اب تک، اسی جگہ (نقطہ) تک، اس مقدار تک۔ مِن هُنا: یہاں سے، اس کا، اس سے، یہاں سے، اب سے، اس لئے، لہٰذا، اس وجہ سے، بذریعہ بذا۔ هُنا و هناك: یہاں وہاں، اِدھر اُدھر۔ هُناكَ و هُنالكَ: وہاں، وہاں پر، اُس جگہ (میں)، ہے، ہیں۔ هُناكَ فو... مانو: ایک ضرب المثل، کہاوت، مثل یا مقولہ ہے۔ الی هُناكَ: وہاں، وہاں پر، اُس جگہ تک۔ مِن هُناكَ: وہاں سے، اُس جگہ سے۔ ماذا هُنالِكَ؟: کیابات ہے؟ کیا ہورہا ہے؟۔

هنأ: ۱۔ هَنَأَ يَهْنُؤ و يَهْنِئُ هَنْأً ہُ: کو کھلانا۔ — فلاناً: کو دینا۔ — الإبلَ: اونٹ پر قطران ملنا۔ — الرجُلَ: کی مدد کرنا۔ يَهْنِئ و يَهْنَأ و يَهْنُؤ هِنأً و هَنأً و هَنَاءَ الطعامُ الرجُلَ و لِلرجُلِ: خوراک کا آدمی کے لئے خوشگوار ہونا۔ کہا جاتا ہے: هَنَأَتْنِيهِ العافيةُ: صحت نے اس کو میرے لئے خوشگوار کر دیا۔ عرب دعا دیتے وقت کہتے ہیں: لِيَهْنِئْكَ الولدُ: بیٹا تجھے خوش کرے!۔ — يَهْنَأ هَنْأً ہُ بالامر: سے لِيَهْنِئْكَ کہنا۔ — هَنْئاً و هِنأً و هَنَاءَةً الطعامَ: کھانے کو موزوں بنانا۔ هَنِئ — هَنَاءً و هَنَأَ بہ: سے خوش ہونا۔ — الطعامَ: کھانے کو مزے دار پانا۔ کہا جاتا ہے: اكلنا من هذا الطعامِ حتى هَنِئْنامِنهُ: ہم نے سیر ہونے تک یہ کھانا کھایا۔ هَنُؤَ يَهْنُؤُ هَنَاءَةً و هَنَاةً و هَنأً: بغیر تکلیف ومشقت کے حاصل ہونا۔ هَنَّأَ تَهْنِئاً و تَهْنِئَةً ہُ بكذا: کو پر مبارکباد دینا۔ أَهْنَأَ إهْنَاءً ہُ: کو دینا۔ تَهَنَّأَ تَهَنُّؤاً بہ: سے خوش ہونا۔ — بالطعامِ: کھانے سے مزالینا، لذت حاصل کرنا۔ اِهْتَنَأَ إهْتِنَاءً مالَہُ: کا مال درست کرنا۔ اِسْتَهْنَأَ إسْتِهْنَاءً الطعامَ: کھانے کو خوشگوار سمجھنا۔ — ہُ: سے مدد چاہنا، سے عطیہ مانگنا۔ الهَانِئ (فا): خادم۔ الهِنْءُ: عطیہ، تارکول کا طلا۔ الهِناء: تارکول۔ الهَنِيءُ: خوشگوار، بلامشقت دستیاب شدہ۔ هذا امر اتاك هنيئاً: یہ امر تجھے مشقت کے بغیر ملا۔ اكلتُهُ هنيئاً مريئاً: میں نے اس کو کسی مشقت کے بغیر کھالیا۔ هَنيئاً لك: یہ تمہارے لئے بلا مشقت کے ہے۔ المَهْنَأ: بلامشقت ملنے والی چیز۔

۲۔ الهِنْءُ: رات کا ایک پہر۔ الهِنَاء: کھجوروں کا گچھا۔

☆ هَنأ — هَنَأ و هِنأ و هَنَاءً ہ ل/ل: کے لئے منفعت بخش ہونا، خوشگوار ہونا، صحت بخش ہونا، فائدہ بخش ہونا، مفید ہونا، سودمند ہونا، سے بھلائی کرنا۔ هَنِيَ — هَنأ ب: سے خوش ہونا، محظوظ ہونا، سے لطف اندوز ہونا، کا لطف اٹھانا، سے استفادہ کرنا۔ هَنأ ہ ب / علي: کو پر یا کے موقع پر مبارک باد دینا یا مبارکباد کہنا۔ — ہ: کو خوش کرنا۔ تَهَنَّأ ب: سے لطف اندوز ہونا، کا لطف اٹھانا، سے استفادہ کرنا۔ هَنِيء: صحت بخش، خوشگوار، پرلطف، پسندیدہ، دل پذیر، موافق، مطابق، آسان، ہموار، آرام دہ۔ هَنِيئاً لك يا هَنِيئاً مَرِيئاً: یہ تمہارے لئے بہت مفید ہوگا، مجھے امید ہے تم اس (کھانے) سے لطف اندوز ہوگے۔ تَهْنِئَة جمع تَهَانِي: مبارکباد، بدھائی، تہنیت، مبارکبادی۔ هَانِئ: خوش، مسرور، خوش وخرم، خادم۔ هَانِئَة: خادمہ۔ مُهَنِّئ: مبارکباد دینے والا، بہی خواہ، خیر اندیش، خیرخواہ۔ هَنا و هَنَاءَة: سعادت، خوشی، مسرت، اچھی صحت، خیرو عافیت، مبارکباد، مبارکبادی، بدھائی، تہنیت۔ هِناء: تارکول۔

هنب: ۱۔ هَنِبَتْ هَنَبَةً الرجُلُ: آدمی کا ڈھیلا ہونا، سست ہونا۔

۲۔ الهَنْبَثَة جمع هَنَابِث: مشکل کام، بات میں گڑ بڑی۔ الهَنَابِث: مصیبتیں، ملی جلی خبریں یا معاملات۔

۳۔ الهِنْبَذَة جمع هَنَابِذ: سخت کام۔

۴۔ الهِنْبِر (ح): نوجوان گدھا، بجو، بجو کا بچہ۔ الهِنْبِرَة: ھنبر کی مادہ، گدھی، بجو۔ الهِنَّبْر: بجو، بیل، گھوڑا، ردی چڑا یا اس کے اطراف۔ الهُنْبُور: ریت کا بلند ٹیلہ۔ الهَنَابِير واحد هُنْبُورَة: ریت کے بلند ٹیلے۔

۵۔ هَنْبَسَ و تَهَنْبَسَ: خبروں کی تلاش میں ہونا۔

۶۔ هَنْبَغَ الرجُلُ: بھوکا ہونا۔ — العجاجُ: غبار کا بہت ہونا، اور اڑنا۔ الهُنْبُغ: خفیف سی حرکت سے اڑنے والی مٹی۔ (ح): شیر، بے وقوف بدکار عورت، شدت کی بھوک۔ کہا جاتا ہے: جوع هُنْبُغ و هِنْبَاغ و هُنْبُوغ: سخت بھوک۔

۷۔ هَنْبَلَ الرجُلُ: لنگڑانا اور بجو کی چال چلنا۔

هنت: هَنَّتَ في امرہ: اپنے کام میں سستی کرنا۔

هنج: تَهَنَّجَ الفصيلُ: اونٹ کے بچہ کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا اور زندگی حاصل کرنا۔

هند: ۱۔ هَنَدَ الرجُلُ: الّو کی طرح چلانا۔

۲۔ هَنَّدَ فلاناً: کو گندی گالی دینا۔ — زيدٌ: زید کا گالی برداشت کرنا اور گالی دینے والے کو گالی نہ دینا۔ — في الامرِ: کام میں کوتاہی کرنا۔ کہا جاتا ہے: ماهَنَّدَ عن الامرِ: کام سے نہ رکنا، کام سے پیچھے نہ ہٹنا۔

۳۔ هَنَّدَ السيفَ: تلوار تیز کرنا۔ الهِند: ایک ملک کا نام، ہند، ہندوستان، بھارت۔ هِنْدِي: ہندوستان کا، ہندوستانی جمع هُنُود: امریکہ کے اصل باشندوں کو بھی هُنُود کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: لَقِيَ هِنْدَ الأحَامِسِ: وہ مرگیا۔ الهِنْدُوَانِي و الهُنْدُوَانِيّ: ہندوستان سے منسوب، ہندوستانی۔ کہا جاتا ہے: سيفٌ هِنْدُوَانِي: ہندوستانی تلوار، یہ نسبت خلاف قاعدہ یا غیر معمولی ہے۔ الأهَانِد: ہندوستان کے لوگ۔ المُهَنَّد: ہندوستانی لوہے کی تلوار۔

۴۔ هَنَّدَتْهُ المرأةُ: عورت کا کسی کو ناز ونخرے سے اپنا عاشق بنانا۔ کہا جاتا ہے: هَنَّدَتْ بقلبه: اس نے اس کے دل کو لبھالیا۔ هِندٌ جمع هُنود و هِندات: ایک عورت کا نام پھر عورتوں کے لئے علم جنس کے طور پر استعمال ہونے لگا جیسے مردوں میں سے زید اور عمرو وغیرہ۔

۵۔ هِندٌ و هُنَيدة جمع أهْنُد و أهْناد و هُنود: سو یا سو سے زیادہ اونٹ۔

۶۔ الهِنْدَب (ن) و الهِنْدَباء و الهِنْدِباء کاسنی۔ الهِندباء البَرِّيَّة: جنگلی کاسنی۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ الهِندَباة و الهِندِباة: هندباء کا واحد۔

۷۔ الهِنداز: حد وقیاس۔ کہا جاتا ہے: اعطاهُ بلا هِنداز ولاحساب: اس نے اسے بلا اندازہ وحساب دیا۔ الهِندازة: درزی کا گز (جس سے کپڑے وغیرہ ناپے جاتے ہیں)۔ المُهَنْدِز: انجینئر۔ (فارسی لفظ) عربی میں اس کے لئے مُهَنْدِس کا لفظ عام ہے۔

۸۔ هَنْدَسَ هَنْدَسَةً مجاري القَنَى و الابنية و نحوها: پائپ لائنوں و عمارتوں وغیرہ کا اندازہ کرنا اور خاکہ کھینچنا۔ ان چیزوں کا منصوبہ بنانا، انہیں تعمیر کرنا، ان کی انجینئری کرنا۔ الهِندِس من الرجال: تجربہ کار، ماہر، دوراندیش۔ الهَنْدَسة: انجینئری، انجینئرنگ (engineering)۔ هُندوس الامر جمع هَنادِسة: کام کا جاننے والا۔ المُهَندِس: انجینئر (engineer) جیومیٹری کا عالم۔

۹۔ الهَنَادِك واحد هِنْدَكي: ہندوستان کے لوگ۔ کاف تحقیر کے لئے ہے (فارسی لفظ)۔

۱۰۔ هَنْدَمَ الشيءَ: چیز کو تناسب سے ترتیب دینا، مضبوط کرنا۔ — العُودَ وغيرہُ: لکڑی وغیرہ کو اندازے پر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

درست کرنا۔ الهِنْدَام: قد کی خوبصورتی اور اعتدال۔ (فارسی)

○ الهند: ہندوستان، بھارت، ہندوستانی: مشرق)۔ الهند البريطانية: برطانوی ہندوستان (تقسیم برصغیر سے قبل)۔ الهند الصينية: انڈوچائنا (Indochina)۔ الهند الشرقية: مشرقی ہندوستان۔ جزر الهند الغربية: ویسٹ انڈیز، کریبین آئی لینڈس۔ (the west Indies, the Caribbean islands)۔ هندی: ہندوستانی، بھارتی (جمع هنود) ایک ہندوستانی، ایک بھارتی۔ المحيط الهندی: بحر ہند the Indian ocean۔ الهنود الحمر: امریکی ہندوستانی (The American Indians)۔ مُهَنَّد: ہندوستانی لوہے کی بنی ہوئی تلوار (sword made of Indian steal)۔ هندب و هندباء: جنگلی کاسنی۔ هِنْدَاز: پیمانہ۔ هَنْدَسة: انجینئری، انجینئرنگ، مکینکل انجینئرنگ۔ فن تعمیر و طرز تعمیر (architecture)، تعمیراتی انجینئرنگ (architectural engineering)۔ فوجی انجینئرنگ (army engineering)۔ جومیٹری (geometry)، مساحت (surveying)۔ علم الهندسة: جیومیٹری۔ هندسة الرى: آبپاشی انجینئرنگ۔ الهندسة الزراعية: فلاحت (agronomy)۔ الهندسة السطحية: مسطح جومیٹری۔ هندسة المدن: ٹاؤن پلاننگ (town planning)۔ الهندسة المعمارية: فن تعمیر۔ هندسة الميدان: جنگی انجینئرنگ (combat engineering)۔ الهندسة الكهربائية: الیکٹریکل انجینئرنگ، برقی حرفیات (electrs-technics)۔ هندسة اللاسلكی: ریڈیو انجینئرنگ۔ المهندسة المدنية: سول انجینئرنگ (civil engineering)۔ الهندسة الميكانيكية: مکینیکل انجینئرنگ۔ هندسی: ٹیکنیکل، ٹیکنولوجیکل، جومیٹریکل، مکینیکل انجینئرنگ یا مکینیکل انجینئرنگ سے متعلق، صنعتی۔ فرقة هندسية: شعبہ انجینئرنگ، کور آف انجینئرز (corps of engineers)۔ القوات الهندسية: کور آف انجینئرز، انجینئر لوگ۔ مُهَنْدِس: معمار، ماہر تعمیرات انجینئر، فنی ماہر، مستری، کاریگر (technician)۔ مهندس زراعی: زرعی انجینئر۔ مهندس عسكری: فوجی انجینئر (army engineer)۔ مهندس كهربائی: الیکٹریکل انجینئر۔ مهندس معماری: ماہر تعمیرات (architect)۔ هَنْدَمَ ه: کو ترتیب سے رکھنا، کو سلیقے سے یا قرینے سے لگانا، کی سج دھج نکالنا، کو خوبصورت لباس پہنانا؛ خوش پوش بنانا، صاف ستھرا بنانا، کو تراش کر درست کرنا۔ ه: کو سجانا، کا بناؤ سنگار کرنا۔ هَنْدَمَة: ہم آہنگی، حسن ترتیب، سلیقہ مندی، صفائی، ستھرائی، آراستگی، ٹیپ ٹاپ۔ مُهَنْدَم: اچھی ترتیب سے رکھا ہوا، سلیقے یا قرینے سے لگایا ہوا، خوب سج دھج والا، خوش پوش، باترتیب، باضابطہ، با قرینہ، صاف ستھرا، آراستہ کیا ہوا، بنا ٹھنا، سجیلا، بانکا، چھبیلا۔ خوش لباس (شخص) ناپ کے مطابق، درزی کا سلا ہوا (لباس)۔ هِنْدَام: ہم آہنگی، حسن ترتیب، سلیقہ مندی، صفائی، ستھرائی، آراستگی، ٹپ ٹاپ، پوشاک، لباس۔ أصْلَحَ هِنْدَامَهُ: اپنا لباس قرینہ سے پہننا، کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، بال بنانا۔ هَنْثِير جمع هَنَاثِير: دیہاتی جائداد۔

هنع: هَنَعَ ـ هَنْعًا الشىءَ: چیز کو موڑنا، دہرا کرنا۔ — لفلان: کسی کا مطیع ہونا صفت: هَانِع جمع هُنَّع۔ هَنِعَ ـ هَنَعًا: جھکی ہوئی گردن والا ہونا صفت: أهْنَع۔ إسْتَهْنَعَ الرجلُ: جواب نہ دے سکنا۔ الهَنَع: قد کا جھکاؤ، اونٹ کی گردن کا جھکاؤ۔ الهَنْعَة: هنع کا اسم مرة، اونٹ کی گردن کے نچلے حصہ داغ کا، چاند کی ایک منزل میں پانچ صف بستہ ستارے جو جوزاء کی بائیں جانب واقع ہیں۔ الهُنَاع (طب): ایک قسم کی بیماری جو انسان کی گردن میں پیدا ہوتی ہے۔ الأهْنَع: جھکی ہوئی گردن یا جھکے ہوئے قد والا، زین پر دائیں بائیں جھکنے والا، زمین کی طرف گردن جھکانے والا اونٹ۔ الهَنْعَاء: اهنع کا مونث۔ نَعَامَةٌ هَنْعَاءُ: خمیدہ گردن والا شتر مرغ۔ اكمة هَنْعَاءُ: چھوٹا ٹیلہ۔

○ هُنْغَارِى (صفت و اسم): ہنگری Hungarian

هنف: ۱۔ هَنَفَ فلانٌ صاحبَهُ: ساتھی کے ساتھ کھیلنا۔ هَانَفَ مُهَانَفَةً و هِنَافًا المرأةَ خاصّةً: عورت کا تحقیر آمیز انداز میں ہنسنا۔ أهْنَفَ: تحقیر آمیز ہنسی ہنسنا۔ — ت المرأةُ: عورت کا تحقیر آمیز انداز میں ہنسنا۔ تَهَانَفَ: مخول سے ہنسنا۔ الهُنُوف: مسکراہٹ سے اونچی ہنسی۔
۲۔ هَنَّفَ و أهْنَفَ الرجلُ: جلدی کرنا۔
۳۔ أهْنَفَ و تَهَانَفَ الصبیُّ: رونے کے لئے تیار ہونا۔
۴۔ تَهَانَفَ بِهِ: پر تعجب کرنا۔

○ هَنَّفَ: جلدی کرنا۔ هَانَفَ و تَهَانَفَ: حقارت آمیز انداز سے ہنسنا، حقارت سے مسکرانا، سسکیاں بھرنا، سسکیاں لینا، ریں ریں کرنا، بسورنا۔

هنق: الهَنَق: بے آرامی، بے قراری۔

هنم: الهَنَم: کھجور یا اس کی ایک قسم۔

○ هَنَم: خشک کھجوریں۔

هنو: الهِنْو: وقت۔ الهَنُ (تخفیف نون یا شعروں میں بعض اوقات تشدید کے ساتھ: ہر اسم جنس سے کنایہ ہے اور معنی چیز ہے۔ کہا جاتا ہے: هذا هَنُكَ: یہ تمہاری چیز ہے۔ تصغیر: هُنَيّ۔ مؤنث هَنَة: اس کا لام کلمہ محذوف ہے۔ ایک لغت میں یہ لام کلمہ هاء ہے، جس کی تصغیر هنيهة ہے۔ جس کی تصغیر هُنَيْهَة ہے۔ کہتے ہیں: امكث هُنَيْهَةً: تھوڑی دیر ٹھہرو۔ ایک لغت میں یہ واو اور تصغیر مونث میں هُنَيَّة اور جمع هَنَوات ہے۔ بعض اوقات اپنے اصل پر جمع آتی ہے چنانچہ آپ کہتے ہیں هنات۔ حالت رفع میں هنوها، نصب میں هناها اور جری میں هنيها۔ الهن کا تثنیہ هَنَانِ و هَنَوانِ جمع هَنُونَ۔ سے کہا جاتا ہے: فی فلان هَنَاتٌ: فلاں شخص میں بری خصلتیں ہیں۔ ایسا اچھی باتوں میں نہیں کہا جاتا ہے۔ الهَنَا: خسیس اور کمینہ نسب۔ هَنَا: أنا کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ آپ کہتے ہیں: هَنَا فعلتُ: میں نے کیا۔ هُنَا قریب جگہ کے لئے اسم اشارہ بمعنی یہاں اس ہا تنبیہ کا اضافہ کر کے کہتے ہیں: هٰهُنَا اور کاف خطاب کا اضافہ کر کے کہتے ہیں: هُنَاكَ: خطاب کے 'ک' کے ساتھ دوری کے لام کا اضافہ کر کے کہتے ہیں۔ هُنَالِكَ: وہاں۔ هُنَا (معرفہ کے طور پر): کھیل کود۔ حديث الركب يومَ هُنَا: کھیل کود کے دن لوگوں کی بات چیت۔ الهَنَاة جمع هَنَوَات: مصیبت۔ کہا جاتا ہے: جَاءَ مِن هَنِی: وہ یہاں سے آیا۔ (من هنا)

○ هَنَة جمع هنات و هَنَوات: چیز، غیر اہم چیز وغیرہ، حقیر رقم، بے حقیقت شے، دھبا، داغ، بدنامی، عیب نقص، درز۔

هـ: هَهْ (تذکرہ اور وعید کے لئے اسم صوت) اف، ارے، ہائے، توبہ، حیف افسوس۔

هة: هَهَّ ـ هَهًّا و هَهَّةً: تتلانا، زبان رکنا۔

○ هَنْهَنَ لِ: (بچہ) کو لوری دے کر سلانا۔ هَنْهُونَة: لوری۔

هو: هُوَ مفرد مذکر غائب کی ضمیر: وہ۔ تثنیہ: هُمَا جمع مذکر هُمْ: مفرد مونث هِیَ: مونث تثنیہ: هُمَا۔ جمع

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

مؤنث ھُنَّ: واو اور فاء کے بعد ھُوَ اور ھِیَ کی ھا کو ساکن کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں کہا جائے گا: وَھْو و فَھْوَ وَھْيَ اور فَھْيَ۔ اس طرح لام کے بعد جیسے اِنَّ ھذا لَھْوَ الحقّ: یہ استعمال قلیل ہے۔ کبھی شعروں میں ہمزۂ استفہام کے بعد ھاء ساکن ہوتی ہے۔ الھُوِیَّۃ: کسی چیز یا شخص کی حقیقت جوہر، روح، اصل، ماہیت، خواص، قسم، نوعیت، ہم اصلی، ہم مادی، ہم ذاتی، ہم جنسی، شخصیۃ، مطابقت، یکسانیت۔ الھُوھُو ھُوَھُوَ سے مرکب لفظ جسے اسم معرف بنا لیا گیا ہے۔ اس کا معنی اتحاد بالذات ہے۔

⊙ ھُو وہ، یہ، خدا ھُوِیۃ و بطاقۃ الھویۃ و تذکرۃ الھویۃ: شناختی کارڈ۔ اوراق الھویۃ: شناخت کی دستاویزات، کاغذات نمائندگی، سرکاری تصدیق، تصدیق نامہ، مراسلہ تعارف عُرِفَ ھُوِیتُہُ: وہ شناخت کیا گیا، وہ پہچان لیا گیا، اس کی نشاندہی کر دی گئی۔

ھوا: ھَاءَ یَھُوءُ ھَوْءًا بنفسہ إلی المعالی: اپنے آپ کو بلند کرنا ۔۔۔ ہُ بخیرٍ او شرٍّ وَھَاءَ بہ خیراً او شراً: کو اچھا یا برا گمان کرنا یا اسکو بھلائی یا برائی سے متہم کرنا ۔۔۔ بفلانٍ: سے خوش ہونا ھَاءَ ھَیْئَۃً حسنۃً: وہ اچھی صورت و شکل پر ہو گیا ھَوِیَ یَھْوَأُ ھَوْءًا الیہ: کا ارادہ کرنا ھَاءِ یا رجلُ: (ہمزہ کی زیر کے ساتھ بمعنی لاؤ۔ ھات کی طرح اس کی بھی گردان ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ھَاءِ ھَائِیَا ھَاءُوا ھَائِی ھَائِیَا ھَائِیْنَ: اسجگہ ہمزہ ھات میں ت کی جگہ آتی ہے۔ جب کہتے ہیں ھَاءَ یا رجلُ (ہمزہ کی فتح سے تو اس کا معنی ہوتا ہے (لے) لو (خذ)۔ مذکر کے لئے آپ کہتے ہیں ھَاءَ ھَاؤُمَا ھَاؤُمْ اور مؤنث کے لئے کہتے ہیں ھَاءِ (یاء کے بغیر ہمزہ کی زیر کے ساتھ) ھَاؤُمَا ھَاؤُنَّ: نیز آپ کہتے ہیں ھَاكَ ھَاكُمَا ھَاكُم ھَاكِ ھَاكُمَا ھَاكُنَّ: اس جگہ ک ھاء کی جگہ ہے الھَوْء (مص): ہمت، پرزور رائے۔ کہا جاتا ہے وقع کذا فی ھَوْئِی یا ھُوئِی: میرے گمان میں ایسا آیا۔

ھوب: الھَوْبُ: دوری، بکواس کرنے والا بیوقوف، آگ کی بھڑک۔

الھَوْبَر (ن): سون یا سرخ سون (ح) چیتا (ح): بہت بالوں والا بندر ناقۃ مُھَوْبِرَۃ: بہت گوشت والی اونٹنی اُذُنٌ مُھَوْبِرَۃٌ مُھَوْبِرَۃ: کان جس پر پشم یا بال ہوں۔

ھوت: ھَوَّتَ تَھْوِیتًا فلانٌ: پست زمین میں آنا ۔۔۔ بہ: کو پکارنا الھُوتَۃ و الھَوْتَۃ: پست زمین، پانی کی طرف اترنے والا راستہ، جمع ھُوَت۔

⊙ ھَوْتَۃ و ھُوتَۃ جمع ھُوَت: پست زمین، زمین میں خوفناک گہرا شگاف، تحت الثری، پاتال، اتھاہ گہرائی، تعر۔

ھوث: الھَوْثَۃ: پیاس۔

ھوج: اھْوَجَ یَھْوَجُ ھَوَجًا: لمبا بیوقوف اور جلد باز ہونا، صفت اَھْوَج مؤنث ھَوْجَاء۔ اُھْوِجَ ہُ: کو لمبا بیوقوف اور جلد باز پانا تَھَوَّجَ الحرُّ: گرمی کا شدید ہونا۔ الاَھْوَج: جنگوں میں بے دھڑک کود پڑنے والا بہادر۔ کہا جاتا ہے ھو اَھْوَجُ الطُّول: وہ بہت لمبا ہے۔ الھَوْجَاءُ جمع ھُوْج: تیز رفتار اونٹنی۔ (جمل اھوج نہیں کہا جاتا) ۔۔۔ من الریاح: تیز رفتار آندھی جو گھروں کو اکھاڑ دے۔ کہا جاتا ہے: لعبت بھا ھُوجُ الریاح: تیز و تند آندھی نے اس سے کِلول کیا ضربۃٌ ھَوْجَاءُ: پیٹ تک اثر کرنے والی ضرب۔

۲ ھَوْجَلَ الرجلُ: ہلکی نیند سونا، بے راہ ریگستان میں چلنا الھَوْجَل: بے راستہ دور تک پھیلا ہوا ریگستان، وہ راستہ جس میں میلوں وغیرہ کے نشان نہ ہوں۔ ایسی زمین جس میں کچھ پتہ نہ چلے، بہت سست، بے وقوف، بدکار عورت، لمبی رات، اونگھ کا بقیہ، کشتی کا لنگر، ماہر رہبر، سست رفتار۔ کہا جاتا ہے مشیٌ ھَوْجَلٌ: سست چال۔

⊙ ھَوَج: حماقت، نادانی، خالی دماغی، بے عقلی، جلد بازی، بے فکری، بے پروائی اَھْوَج مؤنث ھَوْجَاء جمع ھُوْج: بے فکر، بے احتیاط، عاقبت نااندیش، لاپرواہ، بے صبر، جلد باز، بے دھڑک، بے پرواہ، بے لحاظ، بے مروت، سرکش، سر کے بل، سخت عجلت میں، بیوقوف، جیالا، تیز شدید، سخت، پرجوش، بدحواس۔ ھَوْجَاء جمع ھُوْج: طوفان باد و باراں، سخت آندھی، زور کی آندھی، طوفانی بگولہ، طوفانی گرد باد۔

ھود: ھَادَ یَھُودُ ھَوْدًا: توبہ کر کے حق کی طرف رجوع کرنا۔ کہا جاتا ہے ھاد المذنب الی اللہ: گنہگار نے توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا۔ صفت ھَائِد جمع ھُوْد ۔۔۔ فلانٌ: یہودی ہوجانا۔ تَھَوَّدًا: کمزور، نرم آواز سے بولنا ۔۔۔ فی المنطق: نرمی و آہستگی سے بولنا ھَوَّدَ تَھْوِیدًا: گلے میں آواز نرمی سے پھرانا، گانا، آہستہ آہستہ چلنا ۔۔۔ فلانًا: کو خوشی میں ڈالنا، لہو و لعب میں مشغول کرنا، یہودی بنانا۔ ۔۔۔ الشرابُ فلانًا: کو شراب کا مست کرنا ۔۔۔ فلانٌ فی المنطق: نرمی و آہستگی سے بولنا ۔۔۔ فی السیر: چلنے میں دیر کرنا ھَاوَدَ مُھَاوَدَۃً ہُ: کو مائل کرنا، واپس کرنا، سے صلح کرنا ۔۔۔ ہُ فی البیع (ت): سے قیمت میں نرمی کرنا تَھَوَّدَ تَھَوُّدًا: توبہ کر کے حق کی طرف رجوع کرنا، یہودی ہوجانا ۔۔۔ فی المنطق: نرمی و آہستگی سے بولنا الھُوْد: یہود (یہودی کی جمع)، ھائد کی جمع (توبہ کر کے حق کی طرف رجوع کرنے والے) الھَوَادَۃ: وہ چیز جس سے قوم میں بھلائی کی امید کی جا سکے، نرمی، باہمی محبت و الفت، تخفیف و سہولت۔ کہا جاتا ہے لَأَبْعَثَنَّ اِلی رجلٍ لا تاخذہ فیک ھوادۃٌ: میں تجھے ایک ایسے آدمی کے پاس بھیجوں گا جو تجھ سے دوستی کا اظہار نہیں کریگا یَھُود: لوگوں کی ایک نسل (علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے) اس پر ال داخل ہونے پر کہا جاتا ہے الیھود: یہ ھاد واو سے مشتق ہے جس کا معنی ہے وہ تائب ہوئے الیھودی، الیھود کا واحد الیَھُودِیَّۃ: الیھودی کا مونث: یہودی عورت۔

التَھْوَاد: نرمی، دوستانہ سلوک، کمزور اور نرم آواز۔

التَھْوِید: ریت میں ہوا کی سائیں سائیں کی آواز۔ کمزور نرم آواز المُھَاوَدَہ (مص): مراجعت (ت) قیمت میں نرمی المُھَوِّد (فا): گویا، کھیل کود اور طرب میں ڈالنے والا۔

۲ ھَوَّدَ تَھْوِیدًا: کوہان کا گوشت کھانا الھَوَدَۃ و الھُوْدَۃ جمع ھُوَد: کوہان۔

۳ ھُوْد: ایک برگزیدہ نبی کا نام قومُ ھودٍ: قوم عاد۔

۴ الھَوْدَج جمع ھَوَادِج: کجاوہ، ہودہ۔

۵ الھَوْدَع واحد ھَوْدَعَۃ (ح): شتر مرغ۔

۶ الھَوْدَك مؤنث ھَوْدَكَۃ: موٹا۔

⊙ ھَادَ ھَوْدًا: یہودی ہونا ھَوَّدَ: آہستہ چلنا ۔۔۔ ہُ: (شراب کا) کسی کو مست کرنا، مخمور کرنا، مدہوش کرنا، کو یہودی بنانا ھَاوَدَہ: پر مہربان ہونا، شفیق ہونا، سے درگزر کرنا، سے مصالحت کرنا، سے بامروت و خلیق ہونا، کا خیال رکھنا، سے اچھا سلوک کرنا، سے اجتناب کرنا، سے کنارا کرنا، کے راستہ سے دور رہنا تَھَوَّدَ: یہودی ہوجانا الھُود: یہودی (لوگ) یہودی ٹولہ، قوم یہود ھَوَادَۃ: تحمل، برداشت، صبر، دل جوئی، شفقت، مروت، پاس لحاظ، فروتنی، اخلاق، خلق، انسانیت، حسن اخلاق، خوش اخلاقی، بامروتی، نرمی، شریف دلی، (قوانین میں) ڈھیل، تخفیف، کمی مُھَاوَدَۃ: نرمی، مروت، حسن اخلاق، خوش اخلاقی، ناز برداری، دلجوئی، پاس، لحاظ مُھَاوَدَۃُ الاسعار: قیمت کم مقرر کرنا مُتَھَوِّد:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

یہودیت کے رنگ میں رنگا ہوا، یہودی اثر یا غلبہ کے تحت ـمُتَہاوِد: معتدل (قیمت)

ھـوذ: ھُـوَذا: مبتداء (ھو) اور اس کی خبر ذا سے مرکب لفظ۔ دیکھو! یہاں ہے۔ کبھی ھاء تنبیہ کا اضافہ کر کے کہتے ہیں ھَـاھُـوَذا۔ الھَـاذَة جمع ھَـاذ (ن). درخت۔ الھَوْذَة جمع ھَوْذ (ح): بھٹ تیتر۔ الیَہَوْذِی: یہودی۔

ھور: ۱۔ھَـارَ یَھُـوْرُ ھَـوْراً فلاناً بالامر: پر کی تہمت لگانا ـــ ہُ بکذا: کو کا گمان کرنا، کو کا خیال کرنا ـــ الشیءَ: کا تخمینہ لگانا، کا قیاس کرنا۔ فلاناً: کو دھوکا دینا۔الھَوْرَة: تہمت، گمان۔ (ھَارَہُ کا اسم ہے)

۲۔ھارَ یھورُ ھَوراً ہُ عن الشیءِ: کو سے پھیر دینا۔ ہُ علی الشیءِ: کو پر اکسانا۔

۳۔ھَـارَ یَھُـوْرُ ھَوْراً القومَ: قوم کو قتل کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے پر الٹانا ـــ فلاناً: کو پچھاڑنا ـــ البناءَ: عمارت کو منہدم کرنا ـــ البناءُ: عمارت کا منہدم ہونا، ڈھینا ـــ ھَوْراً و ھُؤُوراً البناءُ: عمارت کا پھٹ جانا۔ صفت ھَـائِر۔ اور ھارِ بھی کہتے ہیں۔ جیسے شائک السلاح وشاکی السلاح میں: (یعنی لفظ کو الٹ کر) ھَـوَّرَ تَھْـوِیْـراً ہُ: کو پچھاڑنا، کو ہلاکت میں ڈالنا۔تَھَوَّرَ تَھَوُّراً و تَھَیَّرَ تَھَیُّراً البناءُ: عمارت کا منہدم ہونا، گر پڑنا ـــ الرجلُ: لاپروائی سے کام میں لگنا۔ الوَعْلُ الناسَ: لوگوں میں بخار کا پھیل جانا ـــ اللیلُ: رات کا گزر جانا یا اس کا اکثر حصہ گزر جانا اور تاریکی نہ رہنا ـــ الشتاءُ: موسم سرما کا بیشتر حصہ گزر جانا اور اس کی ٹھنڈک کا ماند پڑ جانا۔اِنْھَـارَ اِنْھِیَـاراً البناءُ: عمارت کا منہدم ہونا، گر جانا ـــ الخرقُ: سوراخ کا پھٹنا گرنا۔اِھْتَـوَرَ اِھْتِـوَاراً الشیُ: ہلاک ہونا۔ کہا جاتا ہے۔رَجُـلٌ ھارٍ و ھارٌ: زمانہ کی سختی سے کمزور اور گرا ہوا آدمی۔الھَـوْر (مص) جمع اَھْوَار: چھوٹا سمندر، بکریوں کا ریوڑ۔خَرْقٌ ھَوْرٌ: چوڑا اور گہرا سوراخ۔الْھَـوْرَة جمع ھَوْرَات: جائے ہلاکت۔اُلْھَوارَة: ہلاکت۔الھَـوَّارَة عند القدماء: فوج کی غیر منظم جماعت۔الھَیَّار: کمزور۔الھَیِّـــر: بیباکی سے کاموں میں گھس پڑنے والا۔التَیْھُور: گری ہوئی ریت، پست زمین۔

ھَـارَ ـھَـوْرًا و ھُـؤُرًا: تباہ ہونا، گر پڑنا، گرنا، منہدم ہونا ـــ ھَوْراً ہ: کو گرانا (خصوصاً عمارت کو)، ڈگمگا کر گرا دینا، گرانا، تباہ کرنا۔ ہُ: کو پچھاڑنا، گرانا، زمین پر پھینک دینا۔ھَـوَّرَ ہ: کو خطرہ میں ڈالنا، جوکھوں میں ڈالنا، نقصان پہنچانا۔تَھَوَّرَ: تباہ ہونا، گرنا، منہدم ہونا، خطرے میں کود پڑنا، لاپروا ہونا، غیر ذمہ دار ہونا، (وقت کا) گزر جانا۔اِنْھَـارَ: گرنا، منہدم ہونا، (بحث کا سلسلہ) ٹوٹ جانا۔ھَـوْر جمـع اَھْوار: جھیل۔ ھَوْرَة جمع ھَوْرَات: خطرہ، اندیشہ۔ھَوَّارِی جمـع ھَـوَّارَة: رضا کار، قلیل مدت کا فوجی سپاہی، بے قاعدہ فوج۔الھوارة: بے قاعدہ فوجی دستے۔ھَیِّر: سخت عجلت میں، بے فکر، بے پروا، عاقبت نا اندیش، کوتہ اندیش۔تَھَـوُّر: بے عقلی، بے پروائی، غیر ذمہ داری، لا اُبالی پن، جلدی ابتری، سرعت، عجلت، جلد بازی، عاقبت نا اندیشی۔اِنْھِیَـار: گرنا، ٹوٹنا، دھما کے سے گرنا، تباہی، سقوط، زوال، بیٹھ جانا، رک جانا، ٹوٹ جانا۔مُتَھَوِّر: جلد باز، غیر محتاط، عاقبت نا اندیش، جلد بازی کا، بے دھڑک، پھرتیلا، بڑا تیز، سخت عجلت کا، غیر اہم، بے فکر، غیر سنجیدہ، بے عقل، لاپروا، غیر ذمہ دار، غیر محتاط، بے وقوف جیالا، احمقانہ طور پر نڈر، درانہ، بے باکانہ۔ھَوْرْمُوْن: ہارمون (ایک مادہ جو غدودوں سے نکل کر خون میں شامل ہوتا ہے اور تحریک اعضاء کا باعث بنتا ہے۔ غدی ریزش (hormone)۔

ھوز: ھَوَّزَ تَھْوِیزًا: مرجانا۔الھُوْز: مخلوق۔ آپ کہتے ہیں۔ما فِی الھوز مثلُك: مخلوق میں تم جیسا نہیں۔ ما اَدری اَیُّ الھُوز ھو: میں نہیں جانتا وہ کونسی مخلوق ہے؟

۲ھَوَّز: حساب جمل کے حروف کا دوسرا مجموعہ۔الْأَھْوَاز: بصرہ اور فارس کے درمیان کا علاقہ، جس میں نو قصبے ہیں۔ ہر قصبہ کا اپنا ایک مخصوص نام ہے۔ ان کی جمع الْاَھْوَاز ہے۔

۳الھَوْزب (ح): گدھ، مضبوط و قوی اونٹ۔

۴الھَوْزَن: گرد و غبار۔

ھوس: ھَاسَ یَھُوسُ ھَوْسًا الشیءَ: کو کوٹنا، توڑنا۔ کہا جاتا ہے۔حمل علی العسکر فداسَھُم وھاسَھُم: اس نے لشکر پر حملہ کیا اور اہل لشکر کو روند ڈالا اور توڑ پھوڑ ڈالا۔ الطَعامَ: بہت کھانا کھانا۔ الرجُلُ: زمین پر سختی سے ٹیک لگاتے ہوئے چلنا۔ باللیل: رات کو گھومنا، پھرنا ـــ حولَ الشیءِ: چیز کے گرد گھومنا۔ ـــ الإبلَ: اونٹوں کو آہستہ ہانکنا ـــ الذِئبُ فی الغنم: بھیڑیے کا بکریوں میں تباہی مچانا۔ھَوِسَ یَھْـوَسُ ھَـوَسًا القومُ: قوم کا حیرت و اضطراب اور فساد میں پڑنا۔ فلانٌ: ہوس والا ہونا۔ھَوَّسَ ہُ: کو کوٹنا، کو ہوس دلانا۔تَھَوَّسَ: نرم زمین میں سخت یا بھاری قدموں سے چلنا۔ ہوس والا ہونا۔الھَوَس (مص): [illegible] کہا جاتا [illegible] سر میں چکر ہے۔الھَـوَّاس و الھَـوَّاسة: رات کو گھومنے پھرنے والا شیر، تجربہ کار بہادر۔رَجُلٌ ھَوَّاس: بہت کھانے والا، پیٹو۔الأَھْـوَس مـونـث ھَوْسَی: ہوس والا، بہت کھانے والا، بسیار خور۔ کہا جاتا ہے: النـاسُ ھَـوْسَـی والـزمان اَھْوَس: لوگ زمانہ کی پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں اور زمانہ ان کو مار کر کھا جاتا ہے۔الھَوِیس: فکر، دل میں چھپائی ہوئی بات ـــ عـنـد الفلاحین: گیہوں وغیرہ جو خوشوں میں بھون کر کھائی جاتی ہے۔الـمُھَـوَّس (مفع): ہوس والا۔ رَجُلٌ مُھَوَّسٌ: اپنے آپ سے باتیں کرنے والا۔

ھَوِسَ ـھَـوَسًا: چکرا جانا، حیران و پریشان ہونا، گھبرا جانا، حواس باختہ ہونا، سخت بوکھلا جانا۔ھَوَّسَ ہُ: کو چکرا دینا، حیران و پریشان کر دینا، گھبرا دینا، حواس باختہ کرنا، بوکھلا دینا، الجھاؤ میں ڈالنا، کو اندھا کر دینا، کو بہکانا، دھوکا دینا، الو بنانا، لٹو کرنا، فریفتہ کرنا، کی نظر کو خیرہ کرنا، پاگل کر دینا، کے حواس بگاڑنا، کو دیوانہ بنا دینا۔تَھَـــوَّسَ: دھوکا کھا جانا، الو بننا، لٹو ہونا، فریفتہ ہونا، کی نظر خیرہ ہونا، گھبرا جانا، کے حواس قائم نہ رہنا، کے پیچھے اندھا ہونا، خیالی پلاؤ پکانے والا ہونا، وہمی، خیال پرست یا خواب دیکھنے والا ہونا۔اِنْھَـوَسَ: دھوکا کھا جانا، الو بننا، لٹو ہونا، (کی) نظر خیرہ ہونا۔ھَـوَس: حماقت، بے وقوفی، نافہمی، نادانی، پاگل پن، دیوانگی، خبط، سودا، خیالی پلاؤ، خواب دیکھنا، وہمی ہونا، وجد، طوفانی تصور، ہذیان پاگل پن اضطراب، ہیجان، فریفتگی، شیفتگی، لٹوپن، وسوسہ، توہم، اندھا پن، کم عقلی۔ھَـوِیـس: خیال، فکر۔اَھْوَس: بے وقوف، پاگل سودائی، چندھیا ہوا، اندھا، بے عقل، فریفتہ، لٹو۔ مَھْـوُوس: (مذہبی) خیال پرست۔مُھَـوَّس: بیوقوف، پاگل، سودائی، چندھیا ہوا، اندھا، فریفتہ، لٹو۔ مُتَھَوِّس جمـع مُتَھَوِّسون: خیال پرست، خیالی پلاؤ پکانے والا۔ھَـوْسَة: شور و غل، غل غپاڑہ، چلانا، ہنگامہ، فساد۔

ھوش: اھَـاشَ یَھُوشُ ھَوْشًا القومُ: قوم کا مضطرب ہونا، قوم میں فتنہ و فساد واقع ہونا ـــ اھلُ الحرب بعضُھم اِلی بعض: بعض کا بعض کی طرف اٹھنا۔ ـت الخیلُ فی الغارة: حملہ میں گھوڑوں کا بدک کر تتر بتر ہونا۔ صفت ھَـوَائِش ـــ المالَ: مال کو حرام طریقے سے جمع کرنا۔ الکلبُ: کتے کا بھونکنا (عام زبان میں) ھَوِشَ یَھْوَشُ ھَوَشًا: مضطرب ہونا۔ ـــ القومُ: مخلط و مضطرب ہونا۔ھَـوَّشَ تَھْوِیْشًا الشیءَ: چیز کو خلط ملط کرنا، ادھر ادھر سے جمع کرنا۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ت الريحُ بالغبار: ہوا کا رنگ برنگ گردوغبار لانا۔ —— القومَ: قوم میں فتنہ اور اختلاف ڈالنا۔ —— الكلبَ: کتے کو بھونکانا۔ هَاوَشَهم مُهَاوَشَةً کو باہم ملانا۔ تَهَوَّش تَهَوُّشًا القومُ: لوگوں کا آپس میں گھل مل جانا۔ تَهَوَّش على فلان: کے خلاف جمع ہونا۔ تَهَاوَش تَهَاوُشًا القومُ: لوگوں کا آپس میں گھل مل جانا۔ الهَائِش فا (هوش کی تاکید کیلئے آتا ہے)۔ کہا جاتا ہے: جاءَ بالهوش الهائش: وہ بڑی تعداد لایا۔ الهُوُش (مص): بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے: جاءَ بالهوش و الهَوْش: وہ بڑی تعداد والی جماعت لایا۔ الهَوْشَة جمع هَوْشَات: دنگہ، گھلی ملی جماعت، مخلوط گروہ، فتنہ، اضطراب۔ کہا جاتا ہے: اياكم و هوشات الليل: رات کے حوادث سے بچو۔ اتّقوا هوشات السوق: بازار کی گمراہی سے بچو اور اس بات سے بھی بچو کہ کوئی تم کو حیلہ سے ٹھگ لے۔ الهُوَاشَات: جمع کردہ حرام و حلال مال، لوگوں کی جماعتیں، یا اونٹوں کے ریوڑ۔ الهَوِيشَة: ملی جلی جماعت۔ التَّهَاوِش: مالِ حرام۔ المَهَاوِش: حرام راہ سے جمع کردہ مال۔

۲۔ هَوِش يَهْوَش هَوَشًا: وبے پن سے چھوٹے پیٹ والا ہونا۔ الهَوَش: پیٹ کا خالی ہونا۔

⟡ هوش - هوشا و هاش - هوشا: براہیختہ ہونا، مشتعل ہونا، بےچینی واضطراب کی حالت میں ہونا۔ هَوَّش ہ: کو براہیختہ کرنا، مشتعل کرنا، میں ہیجان پیدا کرنا، ہلچل ڈالنا، اضطراب پیدا کرنا، کو مضطرب کرنا۔ —— ہ: (انبوہ کو) ابھارنا، براہیختہ کرنا، اکسانا، جوش میں لانا، بھڑکانا، برافروختہ کرنا۔ —— ہ على: کتے کو کسی پر بھونکانا۔ —— ہ على: کو کے خلاف ابھارنا، اکسانا۔ —— على: پر پریشان کن اثر ڈالنا۔ هاوش ہ: کو (کتے کا) بھونک بھونک کر پریشان کرنا۔ تَهَوَّش: مشتعل ہونا، براہیختہ ہونا، ہنگامہ خیز ہونا، (تخیل وغیرہ کا) بےروک ہونا۔ هَوْشَة: جوش، اضطراب، ہنگامہ، ہلچل، گڑبڑ، افراتفری، بےچینی، شورش، بلوہ، دنگا فساد، شوروغوغا، شور، جھگڑا، فساد، ہلڑ، کھلبلی۔ تَهْوِيش: اشتعال، براہیختگی، ہلچل، اضطراب، پریشانی، تشویش، تحریک، ترغیب۔ مُهَوِّش: بھڑکانے والا، محرک، ہیجان پیدا کرنے والا، ابھارنے یا اکسانے والا، تکلیف دہ، مصیبت آور، شورشی، ہجوم کو مشتعل کرنے والا، بھڑکانے والا، اکسانے والا۔

هوع: ا۔ هَاعَ يَهَاعُ و يَهُوعُ هوعًا الرجلُ: قے کرنا۔ اسم۔ الهَوْعُ و الهُوَاعُ و الهُيَعُوعَة: قے۔ هَوَّعَ تَهْوِيعًا الرجلَ ما اكلَهُ: آدمی کو قے کرانا، ڈرانے کے موقع پر کہتے ہیں: لَأُهَوِّعَنَّهُ ما اكلَهُ: میں اس کا کھایا پیا نکال لوں گا۔ تَهَوَّعَ تَهَوُّعًا: بہ تکلف قے کرنا، خون کی قے کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَهَوَّعَ القيئَ: اس نے بمشکل قے کی۔ تَهَوَّعَ نفسَهُ: اس نے خود قے کی۔ الهُوَاع و الهُوَاعَة: قے۔

۲۔ هَاعَ يَهَاعُ هَوْعًا: گھبرانا۔ الهَاع: حریص۔ رجلٌ هاعٍ و هاعٌ: حریص آدمی (یہ هائع کا الٹ ہے)۔ الهَوْع (مص): بری اور شدید قسم کی حرص۔

۳۔ هَاعَ يَهَاعُ هَوْعًا: سبک ہونا۔ —— القومُ بعضُهم الى بعض: ایک دوسرے پر حملہ کا ارادہ کرنا۔ الهَوْعُ و الهُوع: دشمنی۔ المِهْوَع و المِهْوَاع: لڑائی میں چیخنے چلانے والا۔

⟡ هاع ـ هَوْعًا: قے کرنا، ابکائی لینا، قے کرنے کی کوشش کرنا۔ هَوَّعَ ہُ: کو قے کرانا۔ تَهَوَّعَ: قے کرنا، ابکائی لینا، قے کرنے کی کوشش کرنا۔

هوف: الهَوْف: گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا۔ الهُوف: خیر اور بھلائی سے خالی آدمی۔ بیوقوف آدمی۔ نیز بمعنی هَوْف۔

هوك: هَوِكَ يَهْوَكُ هَوَكًا: بیوقوف ہونا۔ هَوَّكَ تَهْوِيكًا ہُ: کو بیوقوف بنانا۔ هَوَّكَ تهويكًا: گڑھا کھودنا۔ تَهَوَّكَ و انْهَاكَ انْهِيَاكًا: حیران و ششدر ہونا، بے احتیاطی سے مشکل میں پڑنا، بات میں مضطرب ہونا۔ الهَوُك و الهَوِك و الأَهْوَك و الهَوْك و اليَهْكُوك: تھوڑی سی عقل رکھنے والا، بیوقوف۔ الهَوَك (مص): تھوڑی سی عقل کے ساتھ بیوقوفی۔ الهُوكَة: گڑھا۔ الهَوَّك: متحیر۔ الهَوَّاكَة: هَوَّاك کا مونث۔ ارضٌ هَوَّاكَة و هَوِكَة: شور زمین۔ الأَهْكَاء: متحیر لوگ۔ المُتَهَوِّك: متحیر، ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والا۔

⟡ هاكَ: دیکھو هاك۔ هَوكي: ہاکی (hockey)۔ هوكيُ الإنزلاق: برفانی ہاکی۔

هول: ا۔ هَالَ يَهُولُ هَوْلًا الامرُ فلانًا: معاملہ کا کسی کو گھبراہٹ میں ڈالنا، معاملہ کا کسی کے لئے مشکل ہونا، تکلیف دہ ہونا۔ هِيلَ هَوْلًا السكرانُ: شرابی کا نشہ میں مختلف رنگ دیکھنا اور ڈر جانا۔ کہا جاتا ہے: هِلْتُ منه: میں اس سے خوفزدہ ہو گیا۔ هَوَّلَ تَهْوِيلًا ہُ: کو خوفزدہ کرنا۔ —— على الرجلِ: آدمی پر حملہ کرنا۔ —— الأمرَ: کام کو برا بنا کر دکھانا۔ —— عندي الأمرَ: کام کو میرے نزدیک خوفناک بنانا۔ —— القومُ على الرجلِ بكذا: لوگوں کا آدمی کو کسی بات سے ڈرانا۔ تَهَوَّلَ الرجلُ: آدمی کا خوفناک ہونا۔ —— مالَهُ: کے مال پر نظر بند لگانے کا ارادہ کرنا۔ اِهْتَالَ اِهْتِيَالًا: خوفزدہ ہونا۔ آپ کہتے ہیں: هُلْتُهُ فَاهْتَالَ: میں نے اسے خوفزدہ کیا تو وہ ڈر گیا۔ اِسْتَهَالَ يَسْتَهِيلُ فلانٌ الأمرَ: کسی کا معاملہ کو وحشت ناک پانا۔ الهَائِل: دہشت ناک۔ —— من الامور: تکلیف دہ اور مشکل کام۔ تاکید کیلئے کہتے ہیں: هَوْلٌ هَائِلٌ: سخت خوف (جیسے کہتے ہیں: ليلٌ لائلٌ: لمبی تاریک رات)۔

الهَوْل (مص) جمع اهوال و هُؤُول: خوف۔ الهَوْلَة: خوف دلانے کی آگ، جو کسی کنوئیں میں سلگائی جاتی تھی اور اس پر نمک اور گندھک چھڑکتے تھے۔ جب وہ چٹختی تو اس شخص سے کہتے جس سے قسم لینی ہوتی کہ یہ آگ تجھے دھمکی دے رہی ہے تو وہ قسم کھانے سے اعراض کرتا۔ بچہ کو ڈرانے کی کوئی چیز۔ مجسمہ جو انگوروں کے باغوں میں گیدڑوں کو ڈرانے کے لئے رکھا جاتا تھا تاکہ وہ انگوروں پر چھلانگ لگانے اور انہیں کھانے سے باز رہیں۔ حیرت انگیز شئے یا بات۔ کہا جاتا ہے: وجهُهُ هُولَةٌ من الهُوَل: اس کا چہرہ انوکھا ہے۔ ماهُوَ الاهُولَةٌ من الهُوَل: وہ کریہہ المنظر ہے۔ الهِيلَة: خوف۔ التَّهْوِيل (مص): جس سے ڈرا جائے۔ المَهَال و المَهِيل: خوفناک جگہ۔ المَهُول: خوفناک۔ المُهَوِّل (فا): قسم کھلانے والا، تاکید کیلئے کہا جاتا ہے: هَوْلٌ مُهَوَّلٌ: سخت خوف۔

۲۔ هَوَّلَ تَهْوِيلًا ت المرأةُ: عورت کا لباس اور زیورات سے مزین ہونا۔ التَّهَاوِيل: (تهويل کا واحد)، سرخ، زرد، سبز مختلف رنگ، تصاویر، نقوش اور زیورات کی زینت۔ تَهَاوِيلُ الربيعِ: موسم بہار کے رنگ برنگ پھول۔

۳۔ الهَال: سراب۔ الهَالَة جمع هَالات: چاند کا کنڈل۔

⟡ هَالَ هَوْلًا ہ: کو ڈرانا، خائف کرنا، ہولا دینا، دہشت زدہ کرنا، خوف زدہ کرنا۔ هَوَّلَ ہ: کو ڈرانا، دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا، کے چھکے چھڑانا، خوف زدہ کرنا۔ —— على ب: کو کی دھمکی دینا، کے لئے کا خطرہ بننا، کو سے ڈرانا، خائف کرنا۔ —— ب: چھری کو خطرناک انداز سے گھمانا۔ —— ہ: کسی چیز کی خوفناک طور پر تصویر کشی کرنا، کو خوفناک کر کے دکھانا۔ —— ہ/من: میں مبالغہ کرنا، پر بہت زور دینا۔ —— من: کے بارے میں بہت بکھیڑا کرنا، کو خواہ مخواہ بہت اہمیت دینا۔ اِسْتِهْال

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہ: کو اہم سمجھنا، کو خوفناک خیال کرنا؛ پر دہشت زدہ ہونا، سے خوف زدہ ہونا، سے چکرا جانا۔ ھَوْل جمع أَھْوَال ھُؤُول: سخت خوف، دہشت، ہیبت، اندیشہ، کھٹکا، ہَول، صدمہ، طاقت۔ ابو الھول: مصری مجسمہ جس کا جسم شیر کا اور چہرہ عورت کا ہے۔ یا لَلْھَوْل: اوہ کتنا خوفناک۔ ھَوْلَة: ڈرنے کی چیز، خوفناک چیز، سخت خوف۔ ھَال: سراب، الائچی۔ ھَالَة جمع ھَالَات: چاند یا سورج کے گرد ہالہ، ولی کا نورانی تاج، آنکھ کے گرد دائرہ ہالہ، تاجِ نور، نورانی، سنہری حلقہ، جلال، بزرگی۔ تھویل: ڈرانا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ، گھبرا دینا، دہشت پیدا کرنا، دھمکی، تخویف، مرعوب کرنا، دھمکانا، ڈانٹنا، مبالغہ، ڈراؤنا خواب، کابوس، خیالی صورت، وہمی صورت، بھوت، سایہ۔ ھذا جمع تھویلات و تھاویل۔ تَھَاوِیل: سجاوٹیں، آرائشیں، زیورات، زیبائشیں، خوشگوار تصورات۔ ھَائِل: خوفناک، دہشتناک، ڈراؤنا، بھیانک، وحشتناک، وسیع، بہت بڑا، ضخیم، مہیب، ہولناک، حیرت انگیز، عظیم الشان، غیر معمولی، عظیم، افسانوی، حیران کن، عجیب خوفناک، سخت، شدید (جنگ، لڑائی)۔ مُھَوِّل: ہولناک، خوفناک، دہشتناک۔ ھَوْلَانْدَا یا ھَوْلَانْدَه: ہالینڈ (ایک ملک کا نام)۔ ھَوْلَانْدِی: ہالینڈ کا، ہالینڈ کا باشندہ جمع ہولاندیون۔

ھوم: ا۔ ھَوَّمَ تَھْوِيمًا و تَھَوَّمَ تَھَوُّمًا: اونگھنا، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی نیند لینا۔ الھَامَّة جمع ھَام و ھَامَاتٌ: ہر چیز کی چوٹی، سرا، دھڑ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قوم کا سردار اور رئیس، لوگوں کی جماعت۔ (ح) گھوڑا۔ ایک چھوٹی قسم کا الو۔ جسے الصدی بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ھذا ھامۃ الیوم او غدٍ: یہ آج مرے گا یا کل۔ اصبح فلانٌ ھامۃً: فلاں شخص مر گیا۔ بنات الھام: دماغ کا مغز۔ الھَوْم: ہلکی نیند۔ الھَوَّام (ح): شیر۔ الأَھْوَم: بڑے سر والا۔

۲۔ الھَوْم: پست زمین۔ ھوم المجوس (ن): چنبیلی کی مانند ایک پودہ جسے مجوس عبادت میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے عجیب وغریب فوائد منسوب کرتے ہیں۔ الھُوَام: بہت سخت پیاس۔ الھَوْمَاة و الھَومَمَة: بیابان، صحراء۔ الھِیم: سیراب نہ ہونے والی ریت۔ قوم ھِیمٌ: پیاسے لوگ۔

ھون: ھَانَ یَھُونُ ھَوْنًا الامرُ علی فلان: پر معاملہ/کام کا آسان ونرم ہونا۔ کہا جاتا ہے: ھُنْ عندی الیوم: آج میرے پاس ٹھہرو اور آرام کرو۔ — ھُونًا و ھَوَانًا و مَھَانَةً الرجُلُ: ذلیل وحقیر ہونا، کمزور اور مسکین ہونا۔ اذا عَزَّ اخوكَ فھُنْ: جب تیرا بھائی معزز اور مغرور ہو جائے تو تو منکسر المزاج اور اپنے آپ کو ذلیل کر اور جب وہ تجھ سے سختی سے پیش آئے تو نرم اور بردبار ہو جا۔ ھَوَّنَ تَھْوِينًا علیه الامرَ: پر معاملہ کو آسان اور ہلکا کرنا۔ کہا جاتا ہے: ھَوِّن علیك: آرام سے، دھیرج سے، تحمل سے، برانگیختہ نہ ہو، مشتعل نہ ہو، جوش میں نہ آ۔ بالکل پرواہ نہ کرو۔ ھَوَّنَ الشیءَ: کو ہیچ جاننا۔ ھَاوَنَ مُھَاوَنَةً نفسَهُ: اپنے آپ سے نرمی کرنا۔ أَھَانَ: إِھَانَةً ہُ: کو حقیر وہیچ جاننا۔ تَھَاوَنَ تَھَاوُنًا و إِسْتَھَانَ إِسْتِھَانَةً بِهِ: کو حقیر جاننا، ہیچ سمجھنا، سے مسخری کرنا۔ اِھْوَانَّ اِھْوِنَانًا ت المفازةُ: بیابان کا وسیع اور پست ہونا۔ الھَاوَن و الھَاوُن و الھَاوُون جمع ھَوَاوِين: کونڈی، کھرل، ہاون، بالا انداز توپ۔ الھَوْن (مص): سکون ووقار۔ کہا جاتا ہے: امْشِ علی ھَوْنِكَ: اپنی روش پر چلو۔ ھذا شیءٌ ھَوْنٌ: یہ چیز حقیر ہے۔ أَحْبِبْ حَبِیبَكَ ھَوْنًا ما: اپنے دوست سے معتدل دوستی کرو، اس میں ذرا سی افراط نہ ہو۔ (ما کا اضافہ ذرا سا یا ذرا سی کے معنی میں ہے)۔ الھُوْن (مص): رسوائی، مخلوق۔ فَأَخَذَتْھُمْ صَاعِقَةُ العذابِ الھُونِ: انہیں رسوا کن عذاب کی بجلی نے آ پکڑا۔ ما أَدْرِی ایُّ الھُونِ ھُوَ: میں نہیں جانتا وہ کس قسم کی مخلوق ہے۔ الھُونَة جمع ھُوَن: تسکین، صلح۔ — والھَوْنَة: نرمی سے چلنے والی عورت۔ الھُوَیْنَا: نرمی آہستگی، یہ الھُونَی کی تصغیر ہے جب کہ الھُونَی اھون کا مونث ہے۔ الھِیْنَة: نوع، قسم، سکون و وقار۔ کہا جاتا ہے: امْشِ علی ھِینَتِكَ: نرمی سے چلو۔ الھَیِّن والھَیْن جمع أَھْوِناء و ھَیِّنون و ھَیْنون مونث ھَیِّنَة و ھَیْنَة جمع ھَیِّنَات و ھَیْنَات: آسان، کمزور، ذلیل، آہستہ کار۔ الأَھْوَن: اسم تفضیل، آسان۔ کہا جاتا ہے: ھو أَھْوَنُ علیه: وہ اس پر آسان ہے۔ المُھْوَئِن و المھوانّ جمع مُھْوَئِنَّات: دور جگہ یا پست زمین۔ المَھَانَة: رسوائی۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ فیه مَھَانَةٌ: ذلیل اور کمزور آدمی۔ المِھْوَان جمع مَھَاوِین: بہت نرم۔

ہ: ھَانَ ھَوْنًا علی: کیلئے آسان ہونا یا ہو جانا، کیلئے کم اہمیت کا حامل ہونا۔ ھَانَ علیه أن: اس حقیقت کو کوئی اہمیت نہ دینا، تھوڑی پروا کرنا کہ...... — ھُونًا و ھَوَانًا و مَھَانَةً: ذلیل یا قابلِ مذمت یا لائق مذمت ہونا یا ہو [illegible] ھَوَّنَ علی: کیلئے آسان کرنا، کوئی چیز آسان یا غیر اہم کے طور پر پیش کرنا یا کسی سے کسی چیز کی آسان یا کم اہمیت کی حامل کے طور پر تصویر کشی کرنا۔ — ہ/من: کو گھٹا کر بتانا، کو بہت کم کر کے دکھانا، کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، کو حقیر سمجھنا، کا حقارت سے ذکر کرنا، کی توہین کرنا۔ أَھْوَنَ ہ/ہ: کو ذلیل سمجھنا، حقیر جاننا، سے نفرت کرنا۔ — ہ: کو ذلیل کرنا، نیچا دکھانا، کو خفیف کرنا، کی خودداری کو صدمہ پہنچانا، کا غرور توڑنا، کو بے عزت کرنا، کو خوار کرنا، کی قدر گھٹانا، کو ذلیل سمجھنا، کو برا خیال کرنا، کو ناچیز سمجھنا، حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، سے حقارت یا توہین آمیز سلوک کرنا، یا سے حقارت اور توہین آمیز انداز سے پیش آنا، کو نظر انداز کرنا، سے بے التفاتی سے کام لینا، کی توہین کرنا، کو برا کہنا، سے بدزبانی کرنا، کو گالی دینا۔ تَھَاوَنَ ب: کو آسان سمجھنا، کے متعلق بری رائے رکھنا، کو حقیر جاننا، کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، کو کوئی اہمیت نہ دینا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، سے نفرت کرنا۔ — ب/فی: میں بے پرواہ ہونا، غافل ہونا، فرض ناشناس ہونا، ڈھیلا ہونا۔ لم یتھاون فی: کچھ کرنے میں ناکام نہ رہنا، کچھ کرنے سے نہ تھکنا۔ استھان و إِسْتَھْوَنَ ب: کو آسان سمجھنا، کو حقیر جاننا، کو کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ کا اس سے بہت کم اندازہ لگانا جتنا وہ ہے، کو حقیر جاننا، کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہ کرسکنا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، کو حقارت سے دیکھنا؛ کو ٹھیک نہ سمجھنا، ٹھیک طرح نہ سمجھنا، کا غلط مطلب لینا۔ لا یُسْتَھَانُ به: برا نہیں، اچھا ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سے چشم پوشی ممکن نہیں۔ ھَوْن: آسانی، سہولت، فرصت، آرام، چین، سکھ۔ ھَوْنًا: آہستہ، آہستگی سے، دھیمے سے، نرمی سے، آرام سے، اطمینان سے، غیر محسوس طور پر۔ علی ھَوْنٍ: آہستہ، دھیمے سے، نرمی سے، آرام سے، اطمینان سے، غیر محسوس طور پر۔ علی ھونِكَ: جب آپ چاہیں۔ ھُون: رسوائی، بے عزتی، فضیحت، ذلت، خواری، تذلیل۔ ھَوَان: کمینگی، سفلہ پن، فرومایگی، ذلت، قابل مذمت یا لائق مذمت اور مقام یا درجہ غیر اہم ہونا، خفت، بے قدری، ہلکا پن، نظر انداز کئے جانے کے لائق ہونا، رسوائی، ذلت، تنزلی، خواری، ذلت، تذلیل، بے عزتی، فضیحت۔ ھَیِّن و ھَیْن جمع ھَیِّنون و ھَینون و أَھْوِناء: آسان، غیر اہم، غیر ضروری، حقیر ادنی، چھوٹی سی، چھوٹا سا، نظر انداز کرنے کے لائق، بھلا دینے کے قابل، کم قیمت کا، ناقابل لحاظ، ناقابل غور، تھوڑا، خفیف، سادہ،

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خالص، تکلف سے عاری، سیدھا سادھا، بے تصنع، باحیا، باعصمت، پاکدامن، معقول۔ هَيِّن لَيِّن: سادہ اور عمدہ۔ هُـــونة: آسانی، سہولت، آرام، فرصت۔ هُـوينا: نرمی، شائستگی، شرافت، حلم، بردباری، ملائمت، شفقت، نرم دلی، رحم دلی، مہربانی، سستی، سست رفتاری، آہستگی، دھیما پن، فرصت، راحت، آرام، چین، سکھ۔ الهوينا: آہستہ، نرمی سے آرام۔ ــ أهْوَن مونث هـونانا: آسان، آرام دہ، زیادہ آسان، زیادہ چھوٹا، کم تر، زیادہ کم، کم قیمت کا، زیادہ نکما، ناقص یا بے کار۔ ما أهْوَنَهُ: یہ کتنا چھوٹا ہے، کتنا نکما، ناقص یا بے کار ہے۔ أهْوَنُ الشَّرَّين: کمتر برائی۔ مَهَانَة: سفلہ پن، خواری، ذلت، تحقیر، توہین، کمینہ پن، فرومائیگی، پاجی پن، رسوائی، بے قدری، خفت، تذلیل، اہانت، شرم کی بات، بے عزتی، بے وقری، بری بات، بے غیرتی، مورد عتاب ہونا، مرتبہ کا چھن جانا، شرمندگی، شرمساری، باعث ننگ و عار۔ اِهَـــانة: ھتک، بے عزتی، تذلیل، اہانت، سبکی، ڈھٹائی، بیہودگی، نامعقولیت، برا برتاؤ، بری ریت، برا رواج، برا دستور، غلط اور بیجا استعمال، گالی گلوچ، دشنام، سخت کلامی، بے حرمتی۔ تَهَاوُن: اہانت، حقارت، تحقیر، نفرت، بیزاری، استہزاء، فروگذاشت۔ تَهَاوُنٌ ب: سے بے اعتنائی، بے توجہی، کی بے قدری، میں عدم دلچسپی۔ اِسْتِهَانَة: اہانت، حقارت، تحقیر، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، نفرت، بیزاری، استہزاء، فروگذاشت، ادائے فرض سے قاصر رہنا، توہین، عدول حکمی، خواری، ذلت۔ مُهِين: توہین کرنے والا، بے عزتی کرنے والا، ذلیل کرنے والا، منہ پھٹ، بدزبان، جذبات کو ٹھیس لگانے والا، دوسروں کو حقارت سے دیکھنے والا، ذلیل کرنے والا، ذلت آمیز، رسوائی کا موجب، رسوا کن، فضیحت ناک، اخلاق سوز، انتہائی شرمناک۔ مُتَهَاوِن: بے پروا، غافل، فرض ناشناس، غیر جانبدار، ڈھیلا، ڈھیلا ڈھالا۔ مُسْتَهِين: توجہ کے لائق نہ سمجھنے والا، گھٹیا یا برا جاننے والا، حقیر سمجھنے والا، نفرت کرنے والا، حقارت سے دیکھنے والا۔

هوه: تَهَوَّهَ الرجُلُ: دردمند ہونا۔ الهَوْهَاءة: احمق۔ والهَوْها: ایسا کنواں جس میں اترنے والے کے لئے کوئی سہارا نہ ہو۔ رجُل هَوْهَاة: کمزور دل آدمی، احمق آدمی۔ الهُوْهَة و الهَوَاهِيَة: بزدل۔ الهَوَاهِي: باطل اور لغو باتیں۔

هـو: الهَوّ: جانب، کنارہ۔ الهُوَّة جمع هُوًى و هُوّ و هُوِىّ: پست زمین، گہرا گڑھا، آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا۔ الهُوَّاءة: پست زمین، گہرا گڑھا۔

هـوى: هَوَى يَهْوِي هُوِيًّا ت العقابُ: عقاب کا اپنے شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ ـــ ت يدی لَهُ: ہاتھ کا کسی کی طرف پھیلنا اور بلند ہونا۔ ـ ت الريحُ: ہوا کا چلنا۔ ـــ ت الناقةُ براكبها: اونٹنی کا سوار کو لے کر تیز دوڑنا۔ ـــ الرجُلُ: مرنا۔ ـــ ت الطعنةُ: نیزے کے گھاؤ کا کشادہ ہونا۔ ـ في السير: گزرنا۔ ـ في الارض: زمین میں جانا۔ ـــــ ت الاذنُ: کان کا سنسانا۔ هُوَّةَ الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ هَوِيًّا و هُوِيًّا و هَوَيانًا الشيءُ: اونچائی سے نیچے گرنا، بلند ہونا چڑھنا۔ بعض کے نزدیک الهَوِی ارتفاع کیلئے اور الهُوِی انحدار کے لئے ہے۔ ـــــ ت الامُ: ماں کا ہلاک ہونا یا لڑکے سے محروم ہونا، صفت هَـــاوِية۔ هَوِيَ يَهْوَى هَوًى هُ: سے محبت کرنا، کو چاہنا، صفت هَوٍ۔ هَاوَى مُهَاوَاةً و هِوَاءً فلانٌ: تیز چلنا۔ ـــ هُ: کی مدارات کرنا۔ أهْوَى إهْوَاءً الشيءُ: گرنا۔ ـــــ ت العقابُ: عقاب کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ ـــــ الشيءَ: کو گرانا۔ ـ ت يدی له: ہاتھ کا کسی طرف پھیلنا اور بلند ہونا۔ کہا جاتا ہے أهْوَى اليه بيده لياخذهُ: اس نے اس کو پکڑنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بعض کے نزدیک باء زائد ہے۔ اور یہ درحقیقت أهْوَى يدَهُ اليه ہے بمعنی اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا۔ نیز کہا جاتا ہے أهْوَيْتُ بالشيء: میں نے اسکا اشارہ کیا۔ اهويتُ له بالسيف فاطرتُ اربنةَ انفهِ: میں نے تلوار کے اشارے سے اسکی ناک کی نوک اڑا دی۔ تَهَاوَى القومُ في المهواة: لوگوں کا گڑھے میں ایک دوسرے کے بعد گرنا۔ ـ الرجُلُ: تیز چلنا۔ اِنْهَوَى انهِواءً الشيءُ: چیز کا اوپر سے نیچے گرنا (جیسے هَوَى کا معنی ہے)۔ اِهْتَوَى اِهْتِوَاءً اليه بشيءٍ: سے کو اشارہ کرنا۔ اِسْتَهْوَى استهواءً هُ: کو حیران و مبہوت کرنا، کو اس کا عشق مزین کر کے دکھانا۔ کو مقناطیسی نیند سلا دینا۔ الهَاوِي (ح): ٹڈی۔ حرف الف کو بھی حاوی کہتے ہیں بمعنی ذو الهواء۔ الهَاوِية: فضا۔ بچہ گم کرنے والی عورت۔ هاوية: دوزخ (غیر منصرف ہے)۔ صفت کا لحاظ کر کے الف لام لگایا جاتا ہے یعنی الهاریۃ کہا جاتا ہے۔ الهَـــوَاء جمع أهْوِيَة: فضا، خالی چیز، ہر چیز جو نیچے سے پھٹی ہو، ہر سیال سونگھنے کی چیز، نسبت کے لئے: هَوَائِي کہا جاتا ہے۔ بزدل (واحد جمع اس میں یکساں ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے هو هواءٌ: وہ بزدل ہے۔ هُم هَوَاءٌ: وہ بزدل ہیں۔ الهواء و اللواء: کبھی نرمی کبھی سختی برتنا۔ عَامَلَهُ بالهواء و اللواء: اس نے اس کے ساتھ کبھی نرمی اور مہربانی سے اور کبھی سختی سے معاملہ کیا۔ الهَوَى (مص) جمع أهْوَاء: عشق (خیر یا شر میں) دل کا ارادہ اور جھکاؤ ان چیزوں کی طرف جن سے کوئی خوش ہوتا ہو۔ (محمود یا مذموم) معشوق۔ (غیر محمود میں زیادہ مستعمل ہے)۔ کہا جاتا ہے فلان اِتَّبَعَ هَوَاه: فلاں شخص نے اپنے خواہش نفس کی اتباع کی (مذمت کے طور پر) فلانٌ من اهل الهَـــوَاء: فلاں شخص راہ حق سے ہٹا ہوا ہے یا بدعتی ہے۔ الهَوِى م هَوِيَة: مشتاق، شائق۔ الهَوِيّ: کان میں سنساہٹ، محبوب۔ کہا جاتا ہے: مضى هَوِيٌّ او هُوِيٌّ من الليل: رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ جلستُ عنده هَوِيًّا: میں اس کے پاس دیر تک بیٹھا۔ الهَوِيَّة جمع هَوايا: گہرا کنواں۔ الأهْوَى: هَوِي سے اسم تفضیل۔ هذا الشيء اهوى اِلَيّ من كـــذا: یہ چیز مجھے فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ الأُهْوِيَّة: فضا۔ گہرا گڑھا۔ الإسْتِهْوَاء (مص): تلقین یا مقناطیسی عمل توجہ۔ مقناطیسی طور پر نیند لانے کا عمل، ہپناٹزم۔ کہا جاتا ہے: مضى تَهْوَاءٌ من الليل: رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ المَهْوَى والمَهْوَاة جمع مَهَاوٍ: فضا، دو پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ۔

C هَوَى ـ هُوِيًّا: گرنا، نیچے گرنا، نیچے آنا، بیٹھ جانا، لڑھکنا، گر پڑنا، ڈگمگانا، گر جانا، اوندھا ہو جانا، الٹ جانا، اوپر تلے ہونا، (شکاری پرندے کا) جھپٹ کر آنا، ٹوٹ پڑنا۔ ـ على: پر گرنا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل سے پکڑنا۔ ـ: ہوا کا چلنا۔ ـ ب: کو زیر و زبر کرنا، تہ و بالا کرنا، کا خاتمہ کرنا، کو ختم کرنا۔ هَوَى على رَقَبَتِها: وہ اس (عورت) کے بازوؤں میں گرا، اس نے اس کو گلے لگایا، وہ اس سے گلے ملا، اس نے اسے آغوش لیا، وہ اس سے ہم آغوش ہوا۔ هَوَى بمقامه: کو عہدے سے گرانا کا عہدہ گھٹانا، کو نگاہوں سے گرانا، ذلیل کرنا۔ هَوِيَ ـ هَوًى ہ/ہ: سے محبت کرنا، کا شائق ہونا، کو پسند کرنا۔ ـــ ہ: کسی مشغلہ میں حصہ لینا، میں شریک ہونا، کو اختیار کرنا، کی طرف بطور مشغلہ توجہ کرنا۔ هَوَّى ہ: (کمرے کو) ہوا دار بنانا، کمرے میں تازہ ہوا آنے دینا، کو ہوا یا تازہ ہوا دکھانا۔ ـــــ: ہوا کرنا۔ هَاوَى ہ: اپنے آپ کو کسی سے بامروت دکھانا، کو خوش کرنا، کی بات ماننا، کی خوش آمد کرنا۔ أهْوَى: گرنا۔ ـــ ب: کو گرانا۔ ـــ على ب: پر سے جھپٹا مارنا، کو سے چنگل مار کر دبوچ لینا۔ ـ على: پر جھکنا۔ ـ الى: کے لئے ہاتھ بڑھانا، کو زبردستی چھیننا، کو پکڑنے کی کوشش

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا، کی طرف جانا، پرہلہ بولنا، کے لئے سخت کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، کی خواہش کرنا۔ أَهْوَى بيده إلى: کے لئے اپنا ہاتھ بڑھانا۔ تَهَوَّى: ہوادار ہونا۔ تَهَاوَى: گرنا، ٹوٹ جانا، ناکارہ ہونا، اپنے آپ کو گرانا، غوطہ مارنا۔ اِنْهَوى: گرنا۔ اِسْتَهْوَى ہ: کو گرویدہ کرنا، بہکانا، ورغلانا، گمراہ کرنا، اُکسانا، رغبت دلانا، طمع دینا، للچانا، پھسلانا، لبھانا، لالچ دے کر پھانسنا، فریفتہ کرنا، کا دل موہ لینا، کو لبھانا، کو نہایت خوش کرنا، کو مسحور کرنا، کو اپنی نظر سے کام لے کر بے خود بنا دینا، پر خوشی سے وجد طاری کر دینا، کو خوش کرنا، محظوظ کرنا، کو آپے سے باہر کرنا، بے خود کرنا، وارفتہ کر دینا۔ هَوًى جمع أَهْوَى و هَوَايا: محبت، چاہ، لگن، پیار، عشق، رجحان، میلان، پسند، رغبت، خواہش، آرزو، تمنا، طلب، چاہت، من کی موج، ترنگ، خوشی، مسرت، مرضی، پسندیدگی، رضا۔ علی هَوَاه: کے لئے موزوں، آرام دہ۔ في الهوى: (سے) عشق۔ اصحابُ الأَهْوَاء: کسی فرقے کے پیرو، بدعتی لوگ۔ هُوَة جمع هُوَات و هُوًى: بہت گہری گھائی یا کھڈ، رخنہ، درز، شگاف، غار، کھوہ، گڑھا، سوراخ، خندق، کھائی، خلیج (مجازا)۔ هواء جمع أَهْوِيَة و أَهْوَاء: ہوا، فضا، کرہ ہوا، چلتی ہوا، موسم، آب و ہوا۔ الهَوَاءُ الأَصفر: پلیگ (بیماری)۔ هواء طَلْق: کھلی ہوا، تازہ ہوا۔ في الهواءِ الطَلْق: گھر سے باہر، میدان میں، تازہ ہوا میں۔ هواء مَضْغوط: دبی ہوئی ہوا۔ سَلْكُ الهواء: ہوا بازی۔ طُلُمْبَةُ الهواء: ہوا بھرنے کا پمپ۔ هَوَائي: ہوائی، آسمانی، ہوادار، فضائی ہوا کا، باد آسا، ہوا جیسا لطیف، بہت اونچا، ہوا سے کام کرنے والا، اندرونی، قطر، موٹائی، چوڑائی، انٹینا، ایریل antenna، aerial۔ نیز (سِلْكٌ هوائيٌّ: انٹینا، ایریل) متلون مزاج، خبطی، موجی، عجیب، من موجیا، لہری، ہر آن بدلنے والا، نہایت لطیف، آسمانی، وہمی، خیالی، غیر حقیقی۔ دولاب هوائي: ہوائی پہیہ۔ هوائي إطاري: فریم دار انٹینا۔ هَوائي طَوْقي: پھندے دار انٹینا۔ هوائي مُرْسِل: پیغام رساں انٹینا۔ هوائي مُزْدَوَج: دو تاروں والا انٹینا۔ هوائي مُسْتَقْبِل: آواز گیر انٹینا۔ هوائي مُفْرَد: اکہرا تار والا انٹینا۔ هَوَّاء: شوقین، غیر پیشہ ور۔ هَوَايَة جمع هَوَايات: مشغلہ، ہابی، تفریحی مشغلہ، شوق کا کام، شائقیت، شوقینی، شوقیہ کھیل یا فن۔ هَوَّايَة: پنکھا، روشندان۔ أَهْوَى: زیادہ مرغوب، زیادہ پسندیدہ، زیادہ خواہش انگیز، پسندیدہ، بہتر۔ أُهْوِيَة: گہری گھائی یا کھڈ، بہت گہرائی، قعر، زمین میں گہرا خوفناک شگاف۔ مَهْوًى و مَهْوَاة جمع مَهَاوٍ: گہری کھائی یا کھڈ۔ قعر، زمین میں گہرا خوفناک شگاف، خلیج، مقام آرزو، بڑی خواہش کی جگہ، خواہش کی چیز، کرہ ہوا، فضا۔ مِهْوَاة: روشندان۔ تَهْوِيَة: ہوا دینا، ہوادار بنانا۔ اِسْتِهْوَاء: دلکشی، سحر، افسوں، دل فریبی، دلبری، دلربائی، پھسلاوا، بہکاوا، لالچ، ترغیب، تحریص، اشتعال۔ هَاوٍ: گرنے والا، بیٹھ جانے والا، محبت کرنے والا، عاشق، چاہنے والا، خیالی، لہری، شوقین، شائق، موجی، غیر پیشہ ور، اناڑی، دل بہلاوے کے لئے کام کرنے والا، فنون لطیفہ کا شائق۔ هَاوِيَة: رخنہ، درز شگاف، خلیج، گہری گھائی یا کھڈ، جہنمی گہرائی، دوزخ، جہنم، اتھاہ یا حد سے زیادہ گہرا گڑھا۔

هيي: هَاءَ يَهِيءُ هَيْأَةً و هَيَاءَةً: خوش شکل و ہیئت ہونا۔ يَهَاءُ هَيَاءَةً اليه: کا مشتاق ہونا — يَهَاءُ و يَهِيءُ هَيْأَةً للامر: کے لئے تیار ہونا۔ هَيِيءَ يَهَاءُ و يَهْيَأُ و هَيُؤَ يَهْيُؤُ هَيْأَةً و هَيَاءَةً: خوش شکل و ہیئت ہونا۔ هَيَّأَ تَهْيِئَةً و تَهْيِيئًا ہ: کو درست کرنا، تیار کرنا۔ هَايَأَ مُهَايَأَةً ہ في الأمر: کی کسی کام میں موافقت کرنا، کبھی تخفیف کے لئے ہمزہ کی جگہ یاء لائی جاتی اور کہا جاتا ہے: هَايَيْتُهُ مُهَايَاةً۔ هَايَأَہُ في دارِ كذا: یہ اس گھر میں عرصہ تک رہا اور وہ مدت تک رہا، بعض کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے حصہ کے مطابق نفع اٹھایا۔ فعلوا كذا بالمهايأة: انہوں نے متفقہ طور پر ایسا کیا۔ یہ فقہاء کی اصطلاح ہے۔ تَهَيَّأَ تَهَيُّؤًا للامر: کے لئے تیار ہونا، آمادہ ہونا، مستعد ہونا — الشيءُ لفلانٍ: کے لئے کوئی چیز ممکن ہونا۔ تَهَايَأَ تَهَايُؤًا القومُ على الامر: پر آپس میں موافقت کرنا۔ تَهَايَأُوا على كذا: پر مجتمع ہونا۔ اللهَيْءُ و الهِيْءُ: کھانے پینے کی دعوت۔ الهَيْئَة و الهِيْئَة جمع هَيْئَات: چیز کی حالت، کیفیت، اور شکل و صورت۔ عِلمُ الهَيْئَة: اجرام سماویہ سے بحث کرنے والا علم۔ الهَيِّئُ و الهِييّ: خوبصورت ہیئت والا۔

○ هَاءَ — و هَيُؤَ — هَيْأَةً و هَيَاءَةً: خوبصورت ہونا، خوشنما ہونا، اچھی شکل کا ہونا، دیکھنے میں حسین ہونا، خوبصورت دکھائی دینا — هِيئَةً إلى: کا خواہش مند ہونا، کی آرزو کرنا۔ هَيَّأَ ہ: کو تیار کرنا، کو لگانا، جڑنا، نصب کرنا — ل: کے لئے راہ ہموار کرنا — ہ: کو ترتیب دینا، ... کی طرف مائل کرنا، کے حق میں اثر ڈالنا۔ هَيَّأَ: فوجوں کو حرکت میں لانا، لڑائی کی حالت میں ہونا۔ هَيَّأَ الأسبابَ لِ: کے لئے راہ ہموار کرنا۔ هَيَّأَ ذاتَهُ لِ: کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ هَيَّأَ فرصةً ملائمةً لِ: کے لئے اچھا موقع پیش کرنا۔ هَايَأَہ في: کے بارے میں کسی سے متفق ہونا، یا معاہدہ کرنا، سے میں اتفاق کرنا، متفق ہونا — ہ: سے موافق یا مطابق ہونا، ہم آہنگ ہونا۔ تَهَيَّأَ لِ: کے لئے تیار ہونا، تیار رہنا — : مسلح ہونا، لڑائی کے لئے تیار ہونا، لڑائی کی حالت میں ہونا — ل: اپنے آپ کو کیلئے تیار کرنا، کے لئے تیار ہونا؛ کے لئے ممکن ہونا — خوش لباس ہونا۔ تَهَيَّأَ: تیار! تَهَايَأَ: اپنے آپ کو ایک دوسرے کے مطابق بنانا، ہم آہنگ بنانا، باہمی تطبیق یا ہم آہنگی کرنا، متفق ہونا، اتفاق کرنا۔ هَيْئَة جمع هَيْئَات: شکل، صورت، ظاہری صورت، ظاہری حالت، ظہور، بھیس، وضع قطع، وضع، ہیئت، پہلو، حالت، کیفیت، ڈھنگ، طور، انداز، رنگ، چہرہ، بشرہ، قیافہ شناسی، علم قیافہ، خدوخال، خصوصی حالت، رویہ، موقف، صورت حال، حالت، گروہ، (اجتماعی) طبقہ، سوسائٹی، مجلس، انجمن، باہمی میل جول، جمعیت، کارپوریشن، اجتماعی ہیئت، تنظیم، بورڈ، کمشن، شعبہ، ڈھانچہ، عملہ (cadre)، کمیٹی، بنیادی تنظیم۔ هيئة الأمم المتحده و الهَيْئَةُ الأُمَمِيَة: مجلس اقوام متحدہ۔ الهيئة الاجتماعية: انسانی معاشرہ۔ هَيْئَة الاذاعة اللاسِلكية: براڈکاسٹنگ کارپوریشن، نشری ادارہ۔ هيئةُ أَركانِ الحرب: جنرل سٹاف۔ هيئة اركان حرب الاسطول: بحری سٹاف۔ هيئةٌ بَرلَمَانِية: پارلیمنٹری گروپ۔ هيئة التحكيم: ثالثی بورڈ، جیوری (jury)، ججوں کی کمیٹی، فیصلہ دینے والوں کی کمیٹی (commitee of umpires)، ریفری، پنچ، حَکَم (جمع) بالخصوص فوجی نقل و حرکت میں)۔ هيئة التدريس: ٹیچنگ سٹاف (اساتذہ) (یونیورسٹی کا) شعبہ۔ پروفیسر صاحبان۔ هيئة حَاكِمة (او حكومية): حکومتی ایجنسی، اتھارٹی۔ هيئة دِبْلُوماسِية: ڈپلومیٹک کور۔ الهيئة السعدية: سعد یونین (مصر کا ایک سابق سیاسی گروپ)۔ هيئة طبية: ایمبولنس کور۔ هيئة نيابية: نمائندہ جماعت، پارلیمنٹری جماعت۔ عِلْمُ الهيئة: فلکیات، ہیئت، علم ہیئت (astronomy)۔ هَيِّ و هَيِي: خوبصورت حسین، جمیل، خوبرو، خوشنما، طرحدار، خوش شکل، دیدہ زیب۔ تَهْيِئَة: تیاری، ٹریننگ، مناسبت، موافقت، ہم آہنگی، ترتیب۔ تَهَيُّؤ: فوجی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

تیاریاں۔تَهایُؤ: باہمی مناسبت یا موافقت، (باہمی) تصفیہ۔مُهَایَأة: مشترکہ حق استعمال واستفادہ بلا ملکیت، نفع میں شرکت کا استعمال۔مُهَیَّأ: تیار، تیارشدہ۔

هیب: ۱۔هَابَ یَهابُ هَیْباً و هَیْبَةً و مَهابَةً ہٗ: سے خوف کھانا، ڈرنا، بچنا۔صفت هَائِب و هَیُوب و هَیِّب و هَیَّاب و هَیِّب و هَیْبان و هَیَّبان و هَیَّبار و هَیَّابة یعنی لوگوں سے ڈرنے والا۔ مَهُوب و مَهِیب و هَیُوب و هَیُبان: جس سے لوگ ڈریں لغت میں هَابَه یَهِیبُهٗ بھی کہا جاتا ہے۔ ـــ الرجُلُ فلاناً: کی تعظیم وتوقیر کرنا۔هَیَّبَ تَهْیِیباً ہٗ الی فلان: کو کے لئے ہیبتناک بنانا۔أهَابَ إهَابَةً الراعی بغنمه: چرواہے کا بکریوں کو ٹھہرانے یا لوٹانے کے لئے للکارنا۔ ـــ بالابل: هاب کہہ کر اونٹوں کو ڈانٹنا۔ ـــ بالخیل: هَبْ یا هَبِی کہہ کر گھوڑوں کو بلانا یا ڈانٹنا۔ ـــ بصاحبه: ساتھی کو بلانا۔ تَهَیَّبَ تَهَیُّباً ہٗ: سے خوف کھانا، کو ڈرانا، گھبرا دینا۔ اِهْتَابَ اِهْتِیَاباً ہٗ: سے خوف کھانا، ڈرنا، بچنا۔ الهَاب (ح): سانپ۔الهَیْبَة (مص): خوف، تعظیم۔الهَیَّبان: لوگوں سے ڈرنے والا، بزدل، چرواہا۔الأهْیَب: زیادہ رعب والا۔مکانٌ مَهابٌ و مَهُوب: خوف کی جگہ۔کہا جاتا ہے هذا الشیء مَهْیَبَةٌ لک: یہ چیز تمہارے لئے ڈر کا باعث ہے۔

۲۔الهَیَّبَار: مٹی، اونٹوں کے مونہوں کی جھاگ، بہت، تھوڑا۔

ج ہاب ـ هَیْبَة و مَهابَة ہ/ ہ: سے ڈرنا، دہشت کھانا، سے خائف ہونا، سے مرعوب ہونا۔ ـــ ہ: کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، کا عقیدت مند ہونا، کا بے حد احترام کرنا۔هَیَّبَ ہ الی: کو کیلئے دہشت ناک بنانا۔ ـــ الی ہ: کے دل میں کا رعب یا احترام ڈالنا۔ ـــ ہ الی: کو کیلئے دہشت ناک یا پُرجلال نظر آنے والی بنانا۔ ـــ علی: کو دھمکی دینا، دھمکانا، ڈرانا، مرعوب کرنا، پر رعب ڈالنا، کی ہمت توڑنا، کی حوصلہ شکنی کرنا۔أهَابَ ب: کو بلانا، پکارنا، سے ملاقات کو جانا، سے اپیل کرنا۔ ـــ ب الی: کو کے پاس لیجانا، پر کے لئے زور دینا، کو پر ابھارنا، برانگیختہ کرنا، کی پر حوصلہ افزائی کرنا، کو پر اکسانا۔تَهَیَّبَ بمعنی هاب ـ نیز تَهَیَّبَ ہٗ: میں احترام کا جذبہ پیدا کرنا، کو خوفزدہ کرنا، دھمکانا، ڈرانا۔ اهتاب: بمعنی هاب ـ هیبة: خوف، ڈر، جلال، احترام، رعب، تعظیم، اجلال، لحاظ، پاس، عزت، ادب، رعب دار شکل، تقدس، متانت، عظمت، مرتبہ، مسلمہ حیثیت، وقار۔هیّاب: بزدل، ڈرپوک، کترانے والا، جھجکنے والا، خوداعتادی سے محروم، احترام کرنے والا۔هَیُوب: بزدل، ڈرپوک، کترانے والا، احترام کرنے والا، دہشت ناک، خوفناک، ڈراؤنا، ڈرا ہوا، سہا ہوا، رعب دار، پرجلال، بارعب، محترم، مقدس۔ مَهاب: تعظیم واحترام کی چیز۔مَهَابَة: عظمت، بلند مرتبہ۔تَهَیُّب: خوف، ڈر، رعب۔مَهُوب و مَهِیب: ڈرا ہوا، دہشت ناک، ناگوار۔مُهِیب: رعب دار، پرجلال، بارعب، محترم، مقدس، سنجیدہ، باوقار، باوجاہت، وجیہ۔مُتَهَیِّب: احترام کرنے والا، مؤدبانہ۔

هیت: ۱۔هَیَّتَ تَهْیِیتاً بفلان: کو پکارنا، بلانا۔هاتِ اسم فعل بمعنی "مجھے دے"۔لا کہا جاتا ہے هَاتِ یا رجلُ و هَاتِی یا امرأة و هَاتیا یا رجلان و یا امرأتان و هاتوا یا رجال و هاتین یا نساءُ: کہا جاتا ہے هَیْتَ و هِیتَ لکَ: (تاء کی تثلیث کے ساتھ) بمعنی یہاں آ۔ آ۔ اس میں واحد، جمع مؤنث برابر ہیں لیکن عدد کو بعد کے الفاظ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔جیسے هیت لکما و هیت لکم و هیت لکُنّ: تم دو آؤ، تم بہت سے مرد آؤ، تم بہت سی عورتیں آؤ۔

۲۔الهِیت: بہت گہری زمین۔

هیث: هَاثَ یَهِیثُ هَیْثاً و هَیَثَاناً لفلان: کو تھوڑا سا دینا۔ ـــ من المال: مال سے ضرورت کے مطابق حصہ پانا۔هَایَثَ مُهَایَثَةً ہٗ: ایک دوسرے پر دولت مندی میں فخر کرنا، کثرت پر فخر کرنا۔تَهَیَّثَ لہٗ شیئاً: کو کوئی چیز دینا۔اِسْتَهَاثَ اِسْتِهَاثَةً ما أعطاهُ: کو دی ہوئی چیز کو زیادہ کرنا۔المُهَایِث: بہت لینے والا۔

۲۔هَاثَ یَهِیثُ هَیْثاً القومُ: جھگڑے کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ گتھ جانا۔ ـــ الشیءُ: حرکت کرنا۔ ـــ هَیْثاً و هَیَثَاناً فی الشیء: کو تباہ کرنا، خراب کرنا، اسی طرح بھیڑیے کا بکریوں میں تباہی مچانا۔ ـــ برجلِه الترابَ: پاؤں سے مٹی اکھیڑنا۔تَهَایَثَ القومُ: جھگڑے کے وقت ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جانا۔اِسْتَهَاثَ اِسْتِهَاثَةً المالَ: مال خراب کرنا، تباہ کرنا۔هَایِثَةُ القوم: لوگوں کا شور وغل۔الهَیْث: حرکت۔الهَیْثَة: لوگوں کی ایک جماعت۔

هیج: ۱۔هَاجَ یَهِیجُ هَیْجاً و هِیَاجاً و هَیَجَاناً الشیءُ: جوش وحرکت میں آنا، اٹھنا۔ ـــ البحرُ: سمندر کا پرشور ہونا، طوفانی ہونا، چڑھنا، موج زن ہونا، موج خیز ہونا۔ ـــ الرجلُ: حماقت سے مضطرب و متحرک ہونا، بہادر ہونا، کود پڑنا۔ ـــ الشیءَ و بالشیءِ: کو برانگیختہ کرنا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا پیاسا ہونا۔ ـــ الابلَ: اونٹوں کو رات کے وقت گھاٹ یا چارے کی طرف چلانا۔کہا جاتا ہے هاجت السماءُ فمُطِرنا: آسمان میں ابروباد ظاہر ہوا اور ہمارے اوپر بارش ہوئی۔هَیَّجَ تَهْیِیجاً الشیءَ: کو برانگیختہ کرنا، اٹھانا۔کہا جاتا ہے هَیَّجَ بینهما الشرَّ: اس نے ان دو شخصوں کے درمیان شر وفساد کو بھڑکایا۔ هَایَجَ مُهَایَجَةً و هِیَاجاً ہٗ: کو بھڑکانا، سے لڑائی کرنا۔تَهَیَّجَ تَهَیُّجاً: برانگیختہ ہونا، بھڑکنا۔تَهَایَجَ تَهَایُجاً القومُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا۔اِهْتَاجَ اِهْتِیَاجاً الشیءُ: برانگیختہ ہونا، بھڑکنا۔الهائج (فا): جوش۔غضب۔کہا جاتا ہے هَاجَ هائِجُهٗ: اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔هَدَأَ هائِجُهٗ: اس کا جوش وغصہ ٹھنڈا ہو گیا۔الهَائِجَةُ: هائج کا مؤنث۔الهَیْج (مص): جنگ، لڑائی، حرکت، تند ہوا۔کہا جاتا ہے: یومُ هَیْجٍ: بادل، بارش یا ہوا کا دن۔اول اول اٹھنے والے بادل کے لئے کہتے ہیں هَاجَ لہٗ هیجٌ حَسَنٌ: بادل خوب اٹھے۔الهَیْجا و الهَیْجَاء: جنگ، لڑائی۔شیءٌ هَیُوجٌ و مِهْیَاجٌ: برانگیختہ واٹھی ہوئی چیز۔

۲۔هَاجَ یَهِیجُ هَیْجاً و هِیَاجاً و هَیَجَاناً النبتُ: گھاس کا سوکھ جانا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا سوکھی نباتات والی ہونا۔أهَاجَ إهَاجَةً ت الریحُ النبتَ: ہوا کا نباتات کو خشک کرنا۔أهْیَجَ إهْیَاجاً الأرضَ: زمین کو سوکھی نباتات والی پانا۔أرضٌ هَائِجَةٌ: سوکھی یا زرد گھاس والی زمین۔الهَیْج: زردی، پژمردگی۔

۳۔الهَاجَة جمع هَاجَات (ح): مینڈکی۔

ج هَاجَ ـ هَیْجاً و هَیَجَاناً و هِیَاجاً: حرکت میں ہونا، ہلنا، جوش میں آنا، بھڑکنا، مضطرب ہونا یا ہو جانا، اٹھنا، (خواہش کا) کا جاگنا، اُگ پڑنا، بڑے جوش میں ہونا، پریشان ہونا۔ ـــ علی: کے بارے میں یا پر طیش میں آنا، برہم ہونا۔ ـــ: (سمندر کا) طوفانی ہونا، موج زن و موج خیز ہونا، تیز ہونا۔هَاجَ و هَیَّجَ ہ: کو حرکت میں لانا، حرکت دینا، متحرک کرنا، ہلانا، مضطرب کرنا، جوش میں لانا، بھڑکانا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا، کو درہم برہم کرنا، میں خلل ڈالنا، پریشان کرنا، بے چین کرنا، کو غصہ دلانا، طیش میں لانا، اشتعال دلانا، اکسانا، روشن کرنا، جلانا، میں آگ لگانا، تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا، (خون کو) ابالا دینا، (خواہش وغیرہ) بیدار کرنا، ابھارنا، کو واضح کرنا (عضو میں) سوزش پیدا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کرنا۔ ہ/ ہ علی: کو پر مجبور کرنا، کوئی ترغیب دینا۔
۔۔۔ ہ: (پرندے کو) اٹھانا، ڈرا کر اڑا دینا۔اھاج بمعنی ھیّج۔ تَھَیَّجَ و اِھْتَاجَ: حرکت میں ہونا، نچلا ہونا، اڑیل ہونا، بے قرار ہونا، بے کل ہونا، پریشان ہونا، جوش میں ہونا، بیدار ہونا، ہوشیار ہونا، خوف زدہ ہونا۔ھَیَجٌ: اشتعال، برانگیختگی، جوش، ہیجان، ہلچل، اضطراب، پریشانی، شورش، گڑبڑ، کھلبلی، افراتفری، ہنگامہ، ان بن، نزاع، نااتفاقی، جھگڑا، لڑائی، جدل وجدال۔ھَیْجَاءُ و ھَیْجَا: لڑائی، جھگڑا، نزاع۔ھَیَجَانٌ: اشتعال، برانگیختگی، جوش، ہیجان، ہلچل، اضطراب، شورش، گڑبڑ، کھلبلی، افراتفری، ہنگامہ، بلوہ، دنگا، شور وغوغا، بے چینی، غصہ کی شدت، جوش وخروش، غضب طیش، جھلاہٹ، خفگی، نفرت خیز غصہ، تلخی، (عناصر کا) تندی دکھانا، بگڑنا اور ہنگامہ۔ھَائِجٌ: حرکت میں، بیدار، چلتا پھرتا، متحرک، بھڑکتا ہوا، مشتعل، بے قرار، بے کل، متلاطم، موج زن، موج خیز (سمندر) اونچی (لہریں)، ناراض، غضبناک، برہم طیش میں، بھڑکا ہوا۔ھَاجَ ھَائِجَةٌ: خشم آلود ہوجانا، طیش میں آجانا۔مُھَیِّجٌ: ہلتا ہوا، حرکت، جوش میں لانے والا، بھڑکانے والا، برانگیختہ کرنے والا، جگانے والا، ہیجان پیدا کرنے والا، پرجوش خیال آفرین، اشتعال انگیز، آتش زن، آتش انداز، آگ لگانے والا، تحریک میں حصہ لینے والا، پریشان کن، بغاوت انگیز، فسادی۔جمع مُھَیِّجَاتٌ: چستی پیدا کرنے والا، نشاط انگیز، محرک۔مُھَیَّجٌ مُتَھَیِّجٌ و مُھْتَاجٌ: بھڑکا ہوا، مشتعل، پریشان، برانگیختہ، جوش میں لایا ہوا۔

هید: ھَادَ یَھِیدُ ھَیْداً و ھَاداً ہُ: کو ڈرانا، مصیبت زدہ کرنا، حرکت دینا، زائل کرنا، منہدم کرنا، روکنا، جھڑکنا۔کہا جاتا ہے:مایُھِیدُنی ذلك: یہ نہ تو مجھ مجھے پریشان کرسکتا ہے نہ مجھے اس کی پرواہ ہے۔ھَیَّدَ تَھْیِیْداً ہُ: بمعنی ھَادَہُ۔۔ الرجُلُ: جلدی چلنا، تیز چلنا۔کہا جاتا ہے:ماھَیَّدَ عن شتمی: وہ مجھے گالی دینے نہیں رکا، نہ جھٹلانے سے باز رہا۔الھَادِ (مص): اونٹ کو ڈانٹنے کا کلمہ۔کہا جاتا ہے:مالَہُ ھَادٌ: اس کو تو نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ منع کرنے والا۔الھَیْدُ (مص): مضطرب۔الھَیْدَانُ: بزدل، مضطرب، احمق بخیل۔
۲۔ھادَ یَھِیدُ ھَیْداً و ھَاداً ہُ: کی اصلاح کرنا۔
۳۔الھَیْدْرُوجِین (ك): مادہ ھدر میں دیکھئے (ہائیڈروجن)۔

هیر: ھَیَّرَہُ فتَھَیَّرَ: بمعنی ھَوَّرَہُ فتَھَوَّرَ: عام لوگ کہتے ہیں ھَیَّرَ مواد الشیءِ: اس نے چیز کے مادوں کو کام کیلئے تیار کیا۔الھَیْرُ: شمالی ہوا۔۔ من اللیل: رات کا نصف اول۔الھَیْرَةُ: نرم زمین۔الھَیَارُ: کھنڈرات، کوڑا کرکٹ۔رجُلٌ ھَیَّارٌ: ضعیف آدمی۔الھَیِّرُ: شمالی ہوا۔ من اللیل: رات کا نصف اول۔رجُلٌ ھَیِّرٌ: کاموں میں بے دھڑک گھس پڑنے والا آدمی۔
ٹ ھَیَّرَ ہ: کو زور سے نیچے پھینکنا، ڈگمگا کر گرانا، کو پھاڑ ڈالنا، گرا دینا، تباہ کرنا۔ھَیِّرٌ: سخت عجلت میں، بے فکر، بے پرواہ، عاقبت نااندیش، کوتاہ اندیش۔ھِیرَا طِیقِي: ہیراطیقی تحریر۔ھِیرُو غَلِیفِي: تصویری، علاماتی، تصویری تحریر کا۔ھِیرُوِین: ہیرووین (hereoin)۔

هیس: ھَاسَ یَھِیسُ ھَیْساً الشیءَ و من الشیءِ: کو کثرت سے لینا۔۔ فلانٌ: تیز چلنا۔الأَھْیَسُ: بہادر، پیٹو، کھاؤ۔۔ من الابل: جری اونٹ۔

هیش: ھَاشَ یَھِیشُ ھَیْشاً الشیءَ: کو خراب کرنا۔۔ القومُ: ہیجان میں آنا، حرکت کرنا۔کہا جاتا ہے ھِشْتُم علینا: تم ہمارے خلاف حرکت میں آئے۔۔ فلانٌ: بہت کلام کرنا۔۔ الرجُلُ: خوش ہونا۔الھَیْشَةُ جمع ھَیْشَاتٌ: مخلوط گروہ، اضطراب، فتنہ۔الھَیْشَةُ جمع ھِیَشٌ: آپس میں بہت لپٹا ہوا درخت۔
۲۔ھَاشَ یَھِیشُ ھَیْشاً الناقةَ: اونٹنی کو آہستہ آہستہ دوہنا۔۔ المالَ: مال جمع کرنا۔
ٹ ھَاشَ۔ھَیْشاً: متحرک ہونا، مضطرب ہونا، بے چین ہونا، ہیجان زدہ ہونا، برانگیختہ ہونا، مشتعل ہونا، جوش میں آنا۔ھِیشٌ: جھاڑی بن، گنجان جھاڑیوں کا سلسلہ، جھاڑی، جھاڑ جھنکاڑ، جھاڑ جھنکار والا علاقہ۔ھَیْشَةٌ: جوش، ہنگامہ، ہلچل، افراتفری، بے چینی، اضطراب، بے قراری، کہرام، بلوہ، فساد، اودھم، دھماچوکڑی۔

هیض: ھَاضَ یَھِیضُ ھَیْضاً الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔الھَیْضُ (مص): پرندہ کی بیٹ۔الھَیْضَةُ: ھَاضَ کا اسم مرۃ: اسہال اور قے۔
۲۔ھَاضَ یَھِیضُ ھَیْضاً فلانٌ العظمَ: ہڈی کو جڑنے کے بعد توڑنا۔کہا جاتا ہے:تماثل المریضُ فھاضَہُ کذا: بیمار اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اس کو فلاں چیز نے دوبارہ بیمار کردیا۔۔ الحزنُ قلبَہُ: غم کا دل کو بار بار لاحق ہونا۔۔ ہُ: کو توڑنا، چور چور کرنا۔ھَیَّضَ ہُ: بمعنی ھَیَّجَہُ۔ تَھَیَّضَ تَھَیُّضاً العظمُ: ہڈی کا جڑنے کے بعد ٹوٹ جانا۔۔ ہُ المرضُ و نحوُہُ: کو بیماری وغیرہ کا بار بار لاحق ہونا۔اِنْھَاضَ اِنْھِیَاضاً العظمُ: ہڈی جڑنے کے بعد ٹوٹ جانا۔اِھْتَاضَ اِھْتِیَاضاً العظمَ: ہڈی کو جڑنے کے بعد توڑنا۔الھَیْضَةُ: رنج وغم کا عود، بیماری کے بعد بیماری۔ھَیْضَةُ الکَرَی: نیند سے پیدا ہونے والی سستی۔عظمٌ مَھِیضٌ: جڑنے کے بعد ٹوٹنے والی ہڈی۔المُسْتَھَاضُ: وہ آدمی جس کی ہڈی جڑ جانے کے بعد پھر ٹوٹ جائے، صحت یاب ہونے کے بعد بدپرہیزی سے دوبارہ بیمار ہوجانے والا۔
۳۔الھَیْضَاءُ: لوگوں کی ایک جماعت، گروہ۔
ٹ (ھَاضَ۔ھَیْضاً) ھِیضَ جَنَاحُہُ: اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، وہ بے بس تھا۔ھَیْضَةٌ: گرمی کے موسم کا ہیضہ، ایشیائی ہیضہ۔مَھِیضٌ: ٹوٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے، پرخچے اڑا ہوا، تباہ و برباد۔مَھِیضُ الجَنَاحِ: ٹوٹے ہوئے بازو یا پر والا، کمزور، سوکھا، خشک، بے بس۔

هیط: اھَاطَ یَھِیطُ ھَیْطاً: شور مچانا۔ھَایَطَ مُھَایَطَةً و ھِیَاطاً: بمعنی ھَاطَ۔ تَھَایَطَ تَھَایُطاً القومُ: قوم کا جمع ہوکر آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا۔الھَیْطُ (مص): کہا جاتا ہے مازال فی ھَیْطٍ و مَیْطٍ: وہ شور کرنے اور شرارت سے باز نہیں آیا۔ھم فی ھِیَاطٍ و مِیَاطٍ: وہ اضطراب اور آنے جانے میں ہیں، وہ مضطرب ہیں، آجا رہے ہیں۔
۲۔ھَایَطَ مُھَایَطَةً و ھِیَاطاً فلاناً: کو کمزور سمجھنا۔
ٹ ھَیْطٌ: شور وغل، غل غپاڑہ، غوغا، شور وغوغا، ہنگامہ، فساد۔ھِیَاطٌ: شور وغل، شور وغوغا، غل غپاڑہ، غوغا۔ھِیَاطٌ: پرشور، فتنہ انگیز یا ہنگامہ خیز ہنگامہ، مجنونانہ اور بے لگام شور وغل، شورش، بلوہ، دنگا۔

هیع: اھَاعَ یَھِیعُ و یَھَاعُ ھَیْعاً الشیءُ: چیز کا سطح زمین پر پھیلنا۔۔ الرصاصُ: سیسہ کا پگھلنا۔۔ ت الابلُ إلی الماءِ: اونٹوں کا پانی کا خواہش مند ہونا۔تَھَیَّعَ و اِنْھَاعَ اِنْھِیَاعاً الشیءُ: چیز کا سطح زمین پر پھیلنا۔کہا جاتا ہے:تَھَیَّعَ و اَنْھَاعَ السرابُ: سراب زمین پر پھیل گیا۔الھَیْعَةُ: سطح زمین پر چیز کا پھیلاؤ۔أرضٌ ھَیْعَةٌ: وسیع پھیلی ہوئی زمین۔الھِیَاعُ: پھیلاؤ۔کہا جاتا ہے ریحٌ ھِیاعٌ لِیَاعٌ: تند وتیز ہوا۔المَھْیَعُ جمع مَھَایِعُ: کشادہ کھلا راستہ۔طریقٌ مَھْیَعٌ: کشادہ راستہ۔بلدہ مَھْیَعٌ: کشادہ ملک۔
۲۔ھَاعَ یَھِیعُ و یَھَاعُ ھَیْعاً و ھَیْعَةً ھُیُوعاً و ھَیْعُوعَةً و ھَیَعَاناً: بزدل ہونا، گھبرانا۔۔ ھَیْعَةً و ھَاعاً: سخت حریص ہونا۔الھَائِعُ: فا۔ لیلٌ ھَائِعٌ: تاریک رات۔کہا جاتا ہے رجُلٌ ھَائِعٌ لائِعٌ: کمزور، بزدل، پریشان آدمی۔الھَائِعَةُ: ھَائِعٌ کا مؤنث: سخت آواز، دشمن کی آواز جس سے انسان

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ڈرے۔ الهَاع: بہت لالچ۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ هاعٌ لاعٌ: کمزور بزدل آدمی۔ امرأةٌ هاعَةٌ لاعَةٌ: کمزور بزدل عورت۔ الهَيْعَة: دشمن کی آواز جس سے انسان ڈرے۔ کمزوری کے ساتھ سخت لالچ، گھبراہٹ میں ڈالنے والی آواز یا برائی۔ رجُلٌ هَيِّعٌ لَيِّعٌ: کمزور گھبرانے والا آدمی۔ المُتَهَيِّعُ: حیران، برائی کی طرف جلدی کرنے والا۔

۳۔ هَاعَ يَهِيعُ و يَهَاعُ هَيْعًا الرجُلُ: بھوکا ہونا۔

۴۔ هَاعَ يَهِيعُ و يَهَاعُ هَيْعًا الرجُلُ: بہ تکلف قے کرنا۔

۵۔ هَاعَ يَهِيعُ و يَهَاعُ هَيْعَةً و هَاعًا من الشيء: سے اکتا جانا۔

۶۔ هَيْعَرَ هَيْعَرَةً ت المرأةُ: عورت کا بدکار ہونا۔ ـــ و تَهَيْعَرَت المرأةُ: عورت کا ایک جگہ نہ ٹکنا۔ الهَيْعَرَة (مص): خفت، طیش، بدکار اور خالی دماغ عورت، بھتنی۔

○ مَهْيَع جمع مَهَايِع: کشادہ پختہ سڑک۔

هيغ: هَيَّغَ تَهْيِيغًا المطرُ الأرضَ: بارش کا زمین کو خوب تر کرنا۔ أَهْيَغَ القومُ: قوم کا خوشحال ہونا۔ الأَهْيَغ: خوشگوار اور فراخ زندگی، بہت پانی، سرسبز سال۔ الأَهْيَغَان: تروتازگی، اور اچھی حالت یا کھانا پینا۔

هيف: ۱۔ هَافَ يَهِيفُ هَيْفًا: بہت پیاسا ہونا۔ ـــ يَهَافُ هِيَافًا هَيَافًا تِ الابلُ: اونٹوں کا سخت پیاس کی وجہ سے منہ کھول کر گرم ہوا کی طرف رخ کرنا۔ أَهَافَ إِهَافَةً الرجُلُ: پیاسے اونٹوں والا ہونا، إِهْتَافَ إِهْتِيَافًا: پیاسا ہونا، صفت: مُهْتَاف۔ إِسْتَهَافَ: گرم ہوا لگنے سے پیاسا ہونا۔ الهَائِف (فا): بہت پیاسا۔ الهَائِفَة جمع هَوَائِف: هَائِف کا مونث۔ سخت پیاس کی وجہ سے منہ کھول کر گرم ہوا کی طرف رخ کرنے والی اونٹنی۔ رجُلٌ هَافٌ: پیاس پر صبر نہ کرنے والا آدمی۔ إبلٌ هَافَةٌ: جلد پیاسے ہونے والے اونٹ۔ الهَيْف (مص): گرم ہوا جو نباتات کو خشک کر دے اور حیوانات کو پیاس لگائے اور پانی کو سکھائے۔ ذَهَبَتْ هيفٌ لِأَدْيَانِهَا: یہ مثلاً اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اپنی عادت پر جما رہے یا اس وقت جب ہر شخص اپنی حالت پر متفرق ہو۔ الهَيُوف و الهَيُوف و المِهْيَاف: پیاسا، سخت پیاسا، جلد پیاسا ہونے والا۔

۲۔ هَافَ يَهَافُ و هَيِفَ يَهْيَفُ هَيَفًا و هَيْفًا الغلامُ: پتلی کمر والا ہونا۔ صفت: أَهْيَف مونث هَيْفَاء جمع هِيف: (یعنی پتلی کمر والا، پتلی کمر والی، پتلی کمر والے یا والیاں)۔

۳۔ هَافَ يَهَافُ هَيْفًا العبدُ: غلام کا بھاگ جانا۔

○ هَافَ ـ هَيْفًا: پیاسا ہونا، پیاس سے منہ سوکھنے والا یا حلق خشک ہونے والا یا حلق میں کانٹے پڑنے والا ہونا۔ ـــ ـ هيفًا: غلام کا بھگوڑا ہو جانا۔ هَيِفَ و هَافَ ـ هَيَفًا و هَيْفًا: پتلا دبلا ہونا، پتلا اور لمبا ہونا، چھریرا ہونا، کمزور ہونا۔ هَيف جھلسا دینے والی ہوا۔ هَيَاف: نزاکت، چھریرا پن، دبلا پن۔ هَيُوف پیاس سے حلق میں کانٹے پڑے ہوا۔ هَيْفَان: پیاسا، پیاس سے سوکھے منہ، خشک حلق والا اور حلق میں کانٹے پڑا ہوا۔ أَهْيَف مونث هَيْفَاء جمع هِيف: دبلا پتلا، پتلا اور لمبا، چھریرا، نازک کمزور۔

هيق: أَهْيَقَ الظَّلِيمُ: شترمرغ کا لمبا ہونا۔ الهَيْق جمع أَهْيَاق و هُيُوق م هَيْقَة: شترمرغ۔ ـــ من الرجال: بہت لمبا تڑنگا یا لمبا پتلا آدمی۔ الأَهْيَق: لمبی گردن والا۔

هيك: ۱۔ هَيَّكَ تَهْيِيكًا: جلدی کرنا، کھودنا۔

۲۔ هيكل: مندر، بڑی عمارت، قربان گاہ، ڈھانچا، ڈھانچ، عمارت کا ڈھانچہ، جسم، چوکھٹا، (موٹر وغیرہ کا) بنیادی ڈھانچہ یا نچلا حصہ، بہت ہی بڑا، عظیم، بہت وسیع، بہت ضخیم۔ مناورَة هَيْكَلِيَّة: عملہ کی نقل و حرکت، بنیادی مشق۔

هيل: ۱۔ هَالَ يَهِيلُ هَيْلًا عليه الترابَ: پر مٹی ڈالنا۔ هَيَّلَ تَهْيِيلًا عليه الترابَ: پر مٹی ڈالنا، پر بہت مٹی ڈالنا۔ تَهَيَّلَ تَهَيُّلًا الترابُ: مٹی پڑنا یا ڈالی جانا۔ إِنْهَالَ إِنْهِيَالًا الترابُ: مٹی پڑنا یا مٹی ڈالا جانا۔ ـــ القومُ علی فلان: پر ٹوٹ پڑنا اس کی مار پیٹ کرنا یا اسے گالی گلوچ کرنا۔

الهَال: گری ہوئی ریت، ڈھیر لگی ریت۔ رملٌ هَالٌ: ڈھیر لگی ریت۔ الهَيْل (مص): ڈھیر لگی ریت، ریت کا ڈھیر۔ جَاءَ بالهَيْل و الهَيْلَمَان: وہ بہت مال یا ریت اور ہوا لایا۔ الهَيَال: ڈھیر لگی ریت، ریت کا ڈھیر۔ الهُيُول: وہ ذرات جو روشن دان میں سے دھوپ کے اندر آتے وقت دکھائی دیتے ہیں۔

۲۔ الهَال (ن): الائچی۔ الهَالَة جمع هَالَات: چاند کے ارد گرد کا حلقہ، ہالہ۔ الهَيُولَى و الهَيُولَى جمع هَيُولَيَات: ابتدائی مادہ۔ هَيُولِيٌّ و هَيُولَانِيٌّ: منسوب بہ هَيُولَى، ابتدائی مادہ کا، ابتدائی مادہ سے متعلق، (یونانی لفظ)۔

۳۔ هَيْلَلَ هَيْلَلَةً: لا الہ الا اللہ کہنا۔

۴۔ الهِيلْيُوم (ك): ہلیم ایک ہلکی گیس (helium)۔

○ هَالَ ـ هَيْلًا ه علی: پر کچھ ڈالنا، گرانا، پھیلانا، چھڑکنا۔ هَيَّل و أهال ه علی: پر کچھ ڈالنا، پھیلانا، چھڑکنا۔ ـــ ه: (ہوا کا مٹی یا ریت) کا ڈھیر لگانا۔ إِنْهَال: ڈھیر لگنا، ڈھیر کی صورت میں گرنا یا ڈالا جانا۔ (بموں کا) ٹپ ٹپ گرنا۔ ـــ علی ب: پر کی بوچھاڑ کرنا، بھرمار کرنا۔ ـــ علی ب: پر سے حملہ کرنا، چڑھ دوڑنا، پر کیبو چھاڑ کرنا۔ ـــ عليها ضربًا و شتمًا: (عورت پر) گھونسوں اور گالیوں سے ٹوٹ پڑنا۔

هَيْل: ڈھیر لگی ریت۔ الهَيْل و الهَيْلَمَان: ڈھیروں روپے، بڑی رقمیں۔ هَيَلان: ریت کا ڈھیر۔ إِنْهِيَال الأرض: مٹی کا تودہ جو گر پڑے (landslide)۔

هَيُول: ذرہ گرد کا ذرہ۔ هَيُولَى و هَيُولَى: ابتدائی مادہ، مادہ، اصل، اصلی جزو۔ هَيُولِي: مادی۔ هَيُولَانِي: مادی، جسمانی ضرورتوں کا یا ان کے متعلق۔

هيم: ۱۔ هَامَ يَهِيمُ هِيَامًا: پیاسا ہونا۔ ـــ هَيْمًا و هُيُومًا و هِيَامًا و هَيَمَانًا و تَهْيَامًا بكذا: سے محبت کرنا۔ ـــ علی وجْهِهِ: آوارہ پھرنا۔ هَيَّمَهُ الحُبُّ: کو محبت کا دیوانہ کر دینا۔ تَهَيَّمَ تَهَيُّمًا الهوی فلانًا: محبت کا کسی کو پاگل کر دینا۔ اُسْتُهِيمَ فؤادُهُ: محبت وغیرہ کی وجہ سے عقل جاتی رہنا۔ صفت: مُسْتَهَامُ الفؤاد۔ الهَائِم فا جمع هُيَّم و هُيَّام: حیران۔ الهَيَام جمع هُيُم: ہمیشہ گرتی رہنے والی ریت۔ الهُيَام: سخت پیاس، عشق کا جنون، اونٹوں کی ایک بیماری جس میں سخت پیاس لگتی ہے۔ الهُيَّام: ضمیر کی خلش رکھنے والے عشاق، شکوک و شبہات رکھنے والے عاشق۔ الأَهْيَم مونث هَيْمَاء جمع هِيم: هُیام کی بیماری والا (اونٹ)۔ رجُلٌ أَهْيَمُ: سخت پیاسا۔ ليلٌ أَهْيَم و ليلةٌ هَيْمَاء: وہ رات جس میں ستارے نہ ہوں۔ الهَيْمَاء: بے آب ریگستان۔ الهَيْمَان مونث هَيْمَى جمع هِيَام و هَيَامَى: پیاسا۔ ہُیام کی بیماری میں مبتلا۔ رجل هيمانٌ: محبت کی وجہ سے شیفتہ و سرگشتہ آدمی۔ الهَيُوم: حیران۔ المَهْيُوم: سخت پیاس والا۔ ہُیام کی بیماری میں مبتلا۔ قلبٌ مُسْتَهَام: محبت و عشق کی وجہ سے پریشان و سرگشتہ دل۔

۲۔ هَامَ يَهِيمُ هِيَامًا: کہا جاتا ہے: هِمْ لِنَفْسِكَ: اپنے آپ کا خیال رکھو۔ إهتام إهتيامًا لنفسه: اپنے نفس کے لئے حیلہ کرنا، تدبیر نکالنا۔

۳۔ تَهَيَّمَ تَهَيُّمًا فلانٌ: اچھی چال چلنا۔

۴۔ کہا جاتا ہے: هَيْمُ اللّٰهِ: اللہ کی قسم۔

۵۔ هَيْمَنَ هَيْمَنَةً: آمین کہنا۔ ـــ الطائرُ علی فراخه:

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پرندے کا اپنے بچوں پر پَر پھیلانا۔ — فلانٌ علی كذا: کی نگرانی ونگہبانی کرنا۔ المُهَيمِن و المُهَيْمَن: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔ بمعنی نگران و حفاظت کرنے والا، لوگوں کے ارزاق وآجال کا کفیل و ذمہ دار۔

○ هَامَ ـ هَيْماً و هَيَمَاناً ب: کی محبت میں گرفتار ہونا، سے محبت کرنا، کے بارے میں سرگرم یا پرجوش ہونا، وجد کی حالت میں ہونا، مضطرب، بدحواس یا پاگل ہونا، آپے سے باہر ہونا، بے حد خوش ہونا، سودائی ہونا، پر جمے رہنا۔ — مارے مارے پھرنا، ادھر اُدھر پھرنا، منہ اٹھائے پھرنا۔ هام علی وجهه: بلا مقصد ادھر اُدھر یا مارا مارا پھرنا۔ هَامَ فی وِدْيَانٍ: پاگل اور مدہوش ہونا، اپنے آپ میں نہ ہونا۔ هَامَ بانظاره: نگاہوں کو ادھر اُدھر پھرانا۔ — هُياماً و هِياماً ب: کی پیار لگنا، کے لئے بیتاب ہونا۔ هَيَّمَ هُ: کو حواس باختہ کرنا، بوکھلا دینا، حیران کرنا، الجھاؤ میں ڈالنا، چکر میں ڈالنا، کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھانا، گمراہ کرنا، (محبت کا) کو لٹو کرنا، فریفتہ کرنا، لبھانا، پر جادو کرنا، موہ لینا، بے خود کر دینا۔ اِسْتُهِيمَ: لٹو ہونا، فریفتہ ہونا، سحر زدہ ہونا، لبھایا جانا، بے خود ہو جانا، پرجوش محبت میں گرفتار ہونا۔ هُيَام و هِيَام: پرجوش محبت، سخت پیاس۔ هَيُوم: بوکھلایا ہوا، حیران، الجھن میں مبتلا، پریشان، ابلہ فریبی کا شکار۔ هَيمان مونث هَيمَی جمع هِيام: محبت میں پاگل، بہت پیاسا۔ هَائِم جمع هُيَّم و هُيَّام: پریشان، ابلہ فریبی کا شکار، چکرایا ہوا، فریب خوردہ، بوکھلایا ہوا، متذبذب، حیران متحیر، بے خود، آپے سے باہر عاشق، محبت میں دیوانہ۔ مُسْتهام: عاشق، محبت میں دیوانہ۔

○ هَيْمَنَ: آمین کہنا۔ — علی: کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، کو نگاہ میں رکھنا، پر نگاہ رکھنا، پر کنٹرول کرنا۔ هَيْمنة: نگرانی، انتظام، کنٹرول، محدود حکمرانی، اقتدار، فرمانروائی، برتری، غلبہ، بالادستی۔ مُهَيْمِن: نگران، کنٹرول کرنے والا، حفاظت کرنے والا، سرپرست ٦ علی: کا ماہر، پر حاوی، غالب، قادر، قابو رکھنے والا۔

هین: الهَيْنَم: روئی۔ الهَيْنَمة: آہستہ آواز۔ الهَيْنوم: مبہم کلام۔

هیه: اِهِيهِ هِيهِ: کسی چیز کو دھتکارنے کا کلمہ۔ یہ کلمہ استزادہ بھی ہے۔

٢۔ هَيْهَات: اسم فعل (آخری حرف ہر سہ حرکات کے ساتھ۔ وہ دور ہوا۔ اس میں کئی لغات ہیں جن میں سے ایہات و ایہان و هَيْهَان و هایَهات و هایَهان (حرف آخر میں ہر سہ حرکات کے ساتھ مَبنی و مُعْرَب۔ هَيْهاهُ و أيها: میں آخری حرف ساکن ہے۔

هیو: الهيُوفارِيقُون (ن): ایک پودا یا کونپل جس کے پھول زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ شمالی نصف کرہ کے معتدل آب وہوا والے ممالک میں اگتا ہے بعض طبی فوائد کا حامل ہے۔

هیی: هَيَا: حرف ندا بعید کے لئے۔ اس کی اصل أيَا ہے۔ هَيّ بن بَيٍّ و هَيَّانُ بنُ بَيَّانَ: وہ شخص جو خود بھی غیر معروف ہو اور اس کا باپ بھی غیر معروف ہو۔ هَيِّ: اسم فعل بمعنی امر: اپنے کام میں جلدی کرو۔ کاف خطاب، لاحق کر کے هَيَّكَ کہتے ہیں۔ تثنیہ میں هَيَّا اور جمع میں هَيُّوا بھی کہتے ہیں۔ هَيَّا هَيَّا: اسم فعل بمعنی امر (أسْرِعْ): جلدی کرو۔ الهَيَّاة: معاملہ۔ شان۔ کہا جاتا ہے ماهَيَّاتهُ: اس کا کیا معاملہ ہے۔

○ هَيْنَمَ: آہستہ بڑبڑانا۔

هِيهُ: او! اوہ! آؤ چلیں! تیز تیز قدم رکھو، خوش باز نظر آؤ۔

هَيْهَاتُ هيهات و هَيْهاتِ: لیکن اف، مدعا سے دور! غلط! کیا انداز فکر ہے! کتنا لچر ہے! هَيْهَات ان: یہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ...... هَيْهَات ان: یہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ...... هَيْهَاتَ اي يفعل كذا: وہ ایسا کرنے سے کتنا دور ہے! هيهات بين هذا و ذاك: اِس میں اور اُس میں کتنا فرق ہے۔ یہ کتنے مختلف ہیں! و هيهات لك ذلك: اور یہ تمہارے لئے کتنا ناممکن ہے!

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ی

ی: حروف تہجی کا اٹھائیسواں حرف اور حروف ابجد میں دس کے برابر ہے۔ مونث کا ضمیر ہے جیسے تَقُومِينَ وَ قُومِيْ اس کے علاوہ متکلم کا ضمیر بھی: جیسے ضربني و كِتابي میں معنی بالترتیب: تو کھڑی ہوتی ہے، تو کھڑی ہو، اس نے مجھے مارا اور میری کتاب۔

يـا: قریب اور بعید کے لئے حرف نداء۔ کبھی منادیٰ بھی محذوف ہوتا ہے جیسے يا ليتني كنتُ معهم: (اے خدا) کاش میں ان کے ساتھ ہوتا يا رُبَّ كاسِيَةٍ فِيْ الدُّنيا عارِيَةٌ يَوْمَ القِيَّامَةِ: (اے خدا) دنیا میں اکثر لباس میں ملبوس قیامت کے دن برہنہ ہونگے یا ان جیسی مثالوں میں صرف تنبیہ کے لئے آتا ہے جیسے: اتاني رجُلٌ ويالہ رجلاً اومن رجل: میرے پاس ایک مرد آیا، اُف کیا مرد تھا! يَالَكَ من فارسٍ ہائے تو کیا شہسوار ہے!۔ کیونکہ یعَرف نداء بھی ہے اور اس کے بعد لام تعجب کا ہوتا ہے۔

○ يا حَسْرَتِي ہائے میری بدبختی۔ يَا سَلَام توبہ، اے توبہ، معاذ اللّٰہ خدا کی پناہ۔ یاما کس قدر! کتنے! کتنی بار!، کتنی دفعہ! يَـالِلّٰـه: کیا مصیبت ہے، کتنا بدبخت ہے۔ يَاتُری تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے تعجب ہے۔

○ اليابان جاپان (ایک ملک کا نام) يابانی: جاپانی (جاپان کا باشندہ)۔ یا بانیون (جاپانی لوگ) جاپانی باشندے۔

○ يارْدَہ جمع یاردات: گز (لمبائی ناپنے کا پیمانہ)

يَـارِزْجَة: جوتش، نجوم، ستارہ شناسی يَـازِرْجِـي جمع یازرجیا جوتشی، نجومی منجم۔

يـاس: يَئِسَ يَيْأَسُ ويَيْئِسُ يأساً ويَئَاسَةً منہُ: سے نا امید و مایوس ہونا صفت فاعلی: يَـائِسٌ و يَئُوْسٌ ويَئُوس جمع يُؤُوس صفت مفعولی: مَيْؤُوس منه۔ (يَئِس کبھی عَلِمَ (جاننا) کے معنی میں بھی آتا ہے: جیسے اس قول میں: أَلَمْ تَيْأَسُوا اني ابنُ فارسِ زَهْدَمِ: کیا تم نہیں جانتے کہ میں فارس زہدم کا بیٹا ہوں)۔ يَئِأَسُ يَأسًا و يَئَاسَةً تِ المرأةُ: عورت کا بانجھ ہونا صفت يَـائِس۔ أَيْأَسَ إيئَاسًاهُ: کو نا امید کرنا ـ اللّٰہُ المرأةَ: اللہ تعالیٰ کا عورت کو بانجھ کرنا۔ أَيَـاسَ إِيَـاسًـا ومُـؤَايَسَةً هُ: کو نا امید کرنا اِتَّـأَسَ اِتِّئَاسًـا واسْتَيْأَسَ اِسْتِيئَاسًا منهُ: سے مایوس و نا امید ہونا۔

اليَأس و اليَأَسَة مایوسی، نا امیدی۔

○ يَئِسَ ـ يَأْسًا ويَآسَةً من: کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا، دست کش ہونا، کے بغیر گزارہ کرنا، کی سب امید چھوڑ دینا۔ سِـنُّ اليـأس: حیض بند ہونے کی عمر۔ أيْـأَسَ ہ: کو دستبردار کرانا، دستکش کرانا، کو امید سے محروم کرنا۔ اِسْتَيْأَسَ بمعنی يَئِسَ۔ يَأس: دستبرداری قطع تعلق، استغناء، صبر، قناعت، توکل، تسلیم ورضا، نا امیدی، مایوسی، محرومی۔

يَـؤُوس: نا امید، مایوس، مایوس کن، بے آس يَـائِس: نا امید، مایوس، مایوس کن، بے آس مَيْؤُوسٌ منـه: ضائع، لا حاصل۔ مایوس کن (مقصد، نصب العین)۔ مُسْتَيْئِس: نا امید، مایوس، جس سے کوئی توقع نہ ہو، مایوس کن بے آس۔

○ ياسَمِيْن: چنبیلی، یاسمین، جوہی۔

○ ياسِنت: سنبل کی قسم کے پودے۔

○ ياطَاش: خدمة بالياطاش: ٹھیکہ کا کام، فوری اجرت کے کام، متفرق کام۔

○ يافا: جافا (جنوب غربی فلسطین کی) بندرگاہ کا نام۔

○ يَـافُطَة ويَـافِطة: سائن، سائن بورڈ، سجاوٹی تختی، زیبائشی تختی، آرائشی لوح، نام کی تختی، دروازہ کی تختی۔

○ ياقة جمع یاقات: کالر Collar

○ يَـاقُوت واحد يَـاقُوتَة جمع يَوَاقِيت: سنبل، نیلم۔ يـاقُوت اَحْـمَـر: لعل، یاقوت، یاقوت۔ ـــــ اَخْضَر: سبز یاقوت یا نیلم، یاقوت جمری: ایک خوش رنگ پتھر، لعل، یاقوت، نگینہ۔

يامِيش: خشک پھل۔

يانِسُون بادیان: سونف۔

○ يَـاوِر جمع يَـاوِرِيَة: افسر اعلیٰ کا مددگار (اجونٹ) اے ڈی کانگ (Aide- de- camp)

یای جمع یایات: کمانی، چکردار کمانی۔

يـاى: يَـايَـا يَـايَـأَةً و يَـايَـا القوم قوم کو پکارنا ـــــ بالابل: اونٹوں کو۔ ای کہکر ٹھہرانا۔ أی سے اونٹوں کو ڈانٹتے ہیں۔ يَايَأ: لوگوں کو جمع کرنے کے لئے اس سے پکارا جاتا ہے۔ اليَأْيَاء: ـ يُـؤْيُـؤ نامی شکاری پرندے کی چیخ۔ اليُؤْيُؤ جمع يَئَايِي (ح) باز سے مشابہ ایک قسم کا شکاری پرندہ اسے الحلم بھی کہا جاتا ہے۔

يـب: يَبَّـبَ المنـزِلَ: گھر کو ویران کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ خَـرَّبُوهُ ويَبَّبُوهُ: انہوں نے اسے تباہ و ویران کر دیا۔ اليَبَاب: ویران۔ منزلٌ خرابٌ يَبَابٌ تباہ اور ویران گھر۔

یبد: الأَبِيد (ن) جو کی طرح کا ایک پودا۔

يبس: يَبِسَ يَيْبَسُ و يَيْبِسُ يَبْسًا و يُبْسًا و اِيَّبَسَ: خشک ہونا صفت: يَبْس و يَبِس و يَابِس و يَبُوس و يَبِيْسٌ و ايْبَس: کہا جاتا ہے۔ يَبِسَ ما بينهما: ان دونوں کے آپس کے تعلقات ٹوٹ گئے۔ يَبَّسَ الشيَّ: کو خشک کرنا۔ ايْبَسَ المكانُ: کسی جگہ کی نباتات کا خشک ہونا ـ القومُ: قوم کا خشک زمین پر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

چلنا۔ — العودُ ٹہنی کا خشک ہونا۔ — الشيءَ: کو خشک کرنا کہا جاتا ہے: ايْبَسْ يا رَجُل: اے مرد، چپ رہ إسْتَيْبَسَ الريقُ: تھوک کا خشک ہونا۔ اليابس جمع يَبَّس: فا، رجلٌ يابِسٌ: بے خیر آدمی حجرٌ يابِسٌ: سخت پتھر اليَبْس (مص خشک۔ جس طرح راکب کی جمع رَکب ہے اسی طرح یہ یابس کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ يَبْسٌ: بے خیر آدمی اليَبَس: خشک، تری کے بعد خشک جگہ۔ شاةٌ يَبَسٌ: بے دودھ کی بکری۔ يَباسٌ خشک۔ اليبُوسة: خشکی۔ يَبيْسُ الماءِ: پسینہ — الأيْبَسان کلائی یا پنڈلیوں کی دو ہڈیاں — الأيابس: الأيْبَس کی جمع: سخت چیزیں جن پر تلواریں آزمائی جاتی ہیں۔ الميْباس: پودوں کو خشک کرنے والی ہوا۔

○ يَبِسَ — يَيْبَسُ و يُبْسًا: خشک ہونا یا ہو جانا يَبَّسَ و أيْبَسَ ه: کو خشک کرنا۔ يبْس و يبِسٌ خشک، خشک شدہ، سکھایا ہوا، رطوبت نکالا ہوا، سفوف بنایا ہوا، بے آب و گیاہ، بنجر۔ يُبُوسَة: خشکی (تحریر یا تقریر کی خشکی بھی) يابس: خشک، خشک کیا ہوا، سکھایا ہوا۔ رطوبت خارج کیا ہوا، سفوف بنایا ہوا، بے آب و گیاہ بنجر، سخت، مضبوط، بےلوچ، ٹھیک پیوست کیا ہوا، اچھی طرح چنا یا جمایا ہوا، اليابسة: زمین، خشک زمین، خشکی، ٹھوس جگہ۔

يتع: اليَتُوع و اليَتُّوع جمع يَتُوعات: دودھ والے پودے۔

يتم: يَتَمَ يَيْتَمُ يُتْمًا و يَتْمًا الصبيُّ من ابيه: باپ مرنے پر بچہ کا یتیم ہونا۔ — يَيْتَمُ يَتْمًا: کوتاہی کرنا، سستی کرنا، تھکنا، دیر کرنا۔ — من هذا الأمر: سے رہائی پانا يَتِمَ يَيْتَمُ يُتْمًا و يَتَمًا الصبيّ من ابيه: باپ مرنے کی وجہ سے بچہ کا یتیم ہونا۔ يتَّمَ هُ: کو یتیم کرنا أيْتَمَ هُ: کو یتیم کرنا۔ — ت المرأةُ: عورت کی اولاد کا یتیم ہونا صفت: مُوتِم جمع مَياتِيم۔ تَيَتَّمَ الصبيُّ: بچہ کا یتیم ہونا۔ اليُتْم (ص): غم اليُتْم (مص): یکتائی، یتیم کی حالت، یتیمی، تاخیر اليَتَم (مص): یکتائی، یتیم کی حالت، یتیمی، حاجت کہا جاتا ہے: في سيره يَتَمٌ: اس کی چال میں کمزوری و سستی ہے۔ صبيٌّ يَتْمانٌ: یتیم بچہ اليتيم: یکتا، اکیلا، لاثانی، بے نظیر (کہا جاتا ہے بيتٌ يتيم: بینظیر گھر، بلد یتیم: لاثانی ملک) ریت کا اکیلا قطعہ۔ — جمع أيْتام و يَتامى و يَتَمة و مَيْتَمة و يَتائِم: نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو۔ من البهائم: وہ جانور جس کی ماں مر گئی ہو۔ اليتيمة جمع يَتامى: یتیم کا مونث۔ علیحدہ ریگستان، دُرّة يَتِيمَة: قیمتی بےنظیر موتی۔ المَيتَم جمع مَياتِم: یتیم خانہ الحربُ مَيْتَمَةٌ: لڑائی بچوں کو یتیم بنانے والی ہے (لڑائی سے مرد ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے یتیم)

○ مَيْتَم جمع مَياتِم و ملجأُ الأيتام و دارُ الأيتام: یتیم خانہ۔ مُيَتَّم: یتیم، بے ماں باپ کا، یتیم کیا ہوا۔

يتن: يَتَّنَ تَيْتِينًا و أيْتَنَ إيتانًا تِ المرأةُ او الناقةُ الولدَ: عورت یا اونٹنی کا پاؤں کی طرف سے پیدا ہونے والے بچے جننا صفت: مُوتِن و مُوتِنة: وہ بچہ جو پیدائش کے وقت سر سے پہلے پاؤں نکالے: مَوتُون کہلاتا ہے۔ جب کہ قیاس کے مطابق مُوتَن ہونا چاہئے۔ اليَتْن: پاؤں کے بل بچہ کی پیدائش۔

○ يَثْرِب مدینہ منورہ کا اصلی نام۔

○ يَحْبُور: شتر مرغ کی قسم کے ایک پرندہ کا چوزہ جسے تغدار یا کلاڈوگ بھی کہا جاتا ہے۔

يحر: الميحار: کھیلنے کا ڈنڈا۔ چوگان۔

○ الميحار عصائے حکومت، عصائے شاہی، بلا، چوگان

يحمر: ۱۔ اليَحْمُور: سرخ، لال (ح): چھوٹی دم کا بارہ سنگا۔

۲۔ اليَحْمُوم: سخت سیاہ، بہت سیاہ

يخت: اليَخْت جمع يُخُوت: بجرا (دورہ یا سیر کی کشتی) (Yacht)

○ يَخْضُور: پودوں کو سبز رنگ دینے والا مادہ کلوروفل Chlorophyll

○ يَخْنة و يَخْني: مسالہ دار گوشت کے پسندے چٹ پٹا سالن، قلیہ، ترکاری دار سالن کی ایک قسم۔

يدع: يَدَّعَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ رنگنا أيْدَعَ الحجَّ على نفسه: احرام کے وقت خوشبو لگا کر حج اپنے اوپر واجب کرنا۔ الأيْدَع (ن) زعفران، بقم کی لکڑی (دیکھو البَقَّم)

يدى: يَدَى يَدْيًا الرجُلَ: کے ہاتھ پر مارنا۔ صفت فاعلی: يادٍ صفت مفعولی: مَيْدِيّ۔ يَدِيَ يَيْدَى يَدْيًا فلانٌ من يده: کا ہاتھ جاتا رہنا، خشک ہونا — الرجُلُ: کمزور ہونا — فلانٌ من فلان: کسی کا کسی سے فائدہ حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے: إنَّ لفلانٍ يَيْدَى به و يَبُوع: فلاں شخص نے اپنا مال ہاتھ بڑھا بڑھا کر بیچ دیا۔ يادَى مُيَاداةً الرجُلَ: کو بدلہ دینا، دست بدست دینا۔ أيْدَى إيداءً عند فلانٍ و اليه: کسی پر انعام کرنا صفت فاعلی مُودٍ صفت مفعولی: مُودًى اليه — اليَد (ع ا) ہتھیلی۔ ہاتھ۔ کلمہ مونث ہے اس کلام محذوف ہے اصل میں يَدْيٌ ہے تثنیہ: يَدان جمع الأيْدِي و اليُدِيّ و جمع الجمع الأيادِي۔ الأيادِي کا اکثر استعمال نعمت کے معنی میں ہوتا ہے الأيْدِي کی جمع الأيْدِين ہے (کہا جاتا ہے لهُ يدٌ بيضاءُ في هذا الأمر: وہ اس امر میں ماہر ہے۔ بعتُهُ يدًا بيَدٍ: میں نے اس کو نقد بقد بیچا۔ ذهَبُوا أيادِي سبا يا أيْدِي سبا: وہ سب بکھر گئے) نعمت، احسان، جمع يُدِيّ و يَدِيّ و أيْدٍ، کھانا، فریادرسی، جاہ، مرتبہ، طاقت، قدرت، کہا جاتا ہے مالك عليه يدٌ: تم کو اس پر طاقت نہیں۔ لا يَدَيْنِ لكَ بهذا: تجھے اس کی طاقت و قوت نہیں۔ يدُالله مع الجماعة: اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور حفاظتی چھاتہ جماعت کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جماعت کی حفاظت کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ اليدُ لفلانٍ على فلانٍ: فلاں شخص کا فلاں شخص پر حکم اور غلبہ ہے۔ هذا في يدي: یہ میری ملک میں ہے۔ الأمرُ بيدِ فلان: معاملہ فلاں شخص کے ہاتھ میں ہے۔ يدي رهينةٌ بكذا: میں اس کا ضامن ہوں۔ اليد جماعت کے معنی میں بھی آتا ہے، کہا جاتا ہے۔ القوم عليه يدٌ واحدةٌ: قوم اسی پر ظلم کرنے یا اس سے دشمنی کرنے میں متحد و متفق ہے۔ راستہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: اخَذَ بهم يدَالبحر: وہ انہیں سمندر کے راستہ پر لے گیا۔ ظلم سے روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ضرب القاضي على يده: قاضی نے اسے تصرف سے روک دیا۔ ذلت و ندامت کے معنی میں، کہا جاتا ہے: سُقِطَ في يَدَيهِ: وہ نادم ہوا۔ أعطَى بيده: وہ مطیع و فرمانبردار ہوا، لقيتُهُ اوّلَ ذاتِ يَدَيْنِ: میں اس سے سب سے پہلے ملا۔ يدُ الطائر: پرندہ کا بازو۔ يدُ الدهر: مدت زمانہ۔ يدُالفاس کلہاڑی کا دستہ يدُ القوس: کمان کی ہر دو جانب اليدُ العُليا: دینے والا ہاتھ۔ اليدُ السُّفلَى: مانگنے والا یا روکنے والا ہاتھ۔ يدُ الجوزاء (فلك) ستارے۔ اليدّ و اليَدَى و اليَدَة: بمعنی يد (ہاتھ)۔ اليَدَوِي ہاتھ کا۔ اليَدِيّ ماہر، ہاتھ کا، ثوبٌ يَدِيٌّ: وسیع کپڑا عيش يَدِيّ: آسودہ زندگی۔ اليُدَيَّة: يد كى تصغير چھوٹا ہاتھ۔ ننھا منا ہاتھ۔ اليَدْياء: ماہر عورت۔ المُودِي محسن، مُنعِم — المُودى اليه: انعام کیا ہوا۔ المَيْدِيّ: جڑ سے کٹے ہاتھ والا۔ ظَبْيٌ مَيْدِيٌّ: جال میں اگلی ٹانگ پھنسی ہوئی ہرنی۔

○ يد (مونث) جمع أيْدٍ و أيادٍ: ہاتھ، اگلی ٹانگ، دستہ، طاقت، کنٹرول، تسلط، اثر، اختیار، اقتدار، مدد، امداد،

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ذاتی قبضہ، حقیقی تسلط، بہبود، مہربانی، کرم فرمائی۔ یـداً بیدٍ: ذاتی، ذاتی طور پر، دست بدست ـ بیـن یدی کے سامنے ـ بیْـنَ یَـدَیْـهِ: اس کے سامنے، اس کی موجودگی میں، اس کی استطاعت یا بس میں ـ بِـأَیْدِیْنَا یـا بَیْـنَ أَیْدِیـنَا: ہمارے ہاتھ میں، ہماری تحویل میں، ہمارے سپرد ـ الـکـلامُ بـیـنَ ایدیکم: تم (لوگوں کے ایک گروہ کے سامنے) تقریر کرسکتے ہو: بحث میں حصہ لے سکتے ہو ـ مَا بین ایدینا مِن: جو ہمارے سامنے ہیں یا جو لوگ تعارف کیلئے ہماری خدمت میں پیش ہوں ـ تـحـتَ الـیـد: دستیاب، قریب ہی، ممکن الحصول ـ تـحـتَ یدِهٖ: اس کے اختیار میں، اس کے تسلط میں ـ عَـلـی یدٍ جمع عَـلـی اَیْدِی: کے ہاتھ یا ہاتھوں میں ـ علی یدہ یا عن یدہ: اس کی مدد سے، اس کی مشفقانہ مدد سے عَلَی أَیدِی الناسِ: دوسرے لوگوں کی مدد سے، دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے۔ فِی الیدِ: موجود، دستیاب ممکن الحصول ـ یدُ الجوزاء: ستاروں کے مجموعہ کا ایک چمکدار ستارہ ـ لَا أَفْـعَـلُـهُ یدَالدھر: میں اسے کبھی نہیں کروں گا ـ یدُ المِظَلَّةِ چھتری کا دستہ ـ یدُالـنـکـاح: شادی کا پروانہ، سند ـ ذُوالیـد: بااثر، ذی اثر، بارسوخ، حقیقی تسلط کا حامل، قابض ـ سـاعةُ الید: کلائی کی گھڑی ـ سَبطُ الیدین: فیاض، سخی، دریادل، کریم، کشادہ دل ـ شَـنْـطَةُ الید: ہینڈ بیگ ـ شـغـل الـیـد یا عمل الید: ہاتھ کا کام، دستی کام ـ صفادُ الید: ہتھکڑی ـ صِفرُ الیدین: خالی ہاتھ ـ عَربَةُ الید: ہاتھ گاڑی، ہتھ گاڑی ـ قُنبُلَةُ الید: دستی گرینیڈ ـ یـدٌ بیـضـاء جمع اَیـادٍ بیـضـاء: فائدہ، بہتری، بہبود، مہربانی، ہمدردی، کرم فرمائی، نوازش، مہارت، اہلیت، استعداد، لیاقت، عِلمیت، قابلیت، فارغ البالی، کارنمایاں، بڑا کام ـ لـه یـدٌ بیـضـاءُ فی: وہ میں یا کا ماہر، تجربہ کار ہے ـ وہ میں یا پر تفوق رکھتا ہے، بالادست ہے ـ یـدٌ مُبْطِلَة: ناجائز قبضہ ـ یـد مُحِقّة: جائز قبضہ ـ بـقـی مکتوف الأیدی أمام: کے سامنے بے بس ولاچار کھڑا ہونا ـ دَقّ یـدًا بـیـدٍ: تالی بجانا ـ ذَهَبُوا أَیْـدِیَ (یـا أَیَـادِیَ) سَبَـا: سب طرف بکھر جانا یا منتشر ہونا ـ أَسْدَی الیـه یداً: سے ہمدردی کرنا، پر نوازش کرنا، مہربانی کرنا ـ سُـقِـطَ فـی یـدِهٖ: سہا ہوا یا متحیر کھڑا ہونا، گھبرانا، حواس باختہ ہونا اُسْقِطَ فی یدہ: بمعنی سُقِـطَ فی یدہ ـ شَدَّ یَدَه علی: سے چمٹ جانا ـ مشغول بالید یا مصنوع بالید: ہاتھ کا بنایا ہوا ـ طَلَبَ یدَالمرأة: عورت کو شادی کا پیغام دینا، سے شادی کی درخواست کرنا اعـطـاہٗ شیـئًا عن ظهرِ یدٍ: کو کوئی چیز مفت دینا، کو کوئی چیز بطور تحفہ دینا ـ الید العاملة: محنت کش طبقہ، محنت کش لوگوں کا گروہ ـ قَـدَّمَـهُ بالید: کو ذاتی طور پر دینا، پیش کرنا، سپرد کرنا ـ الایدی العاملة: افرادی قوت، ہل مزدور، محنت کش لوگ، کاریگر، مزدور، ملازم لوگ ـ لـه عندی یدٌ: میں ایک نوازش کی وجہ سے اس کا احسانمند، شکرگزار یا ممنون ہوں ـ لهُ یدٌ فی: اس کا (اس) میں ہاتھ ہے ـ لـه الیـدُ الطُّولیٰ فی: میں ذی اثر ہونا، زورآور ہونا، پر فیصلہ کن اختیار رکھنا ـ لـهُ عنـدَ الـنـاسِ یدٌ: وہ دوسرے لوگوں پر بہت اثر رکھتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، بہت کچھ کرسکتا ہے ـ مـالـی بـذلـك یـدان: یہ میری طاقت میں نہیں ـ مَـدُّ یَـدِ المسـاعـدة (یـا المعونۃِ یا العونِ): مدد کا ہاتھ بڑھانا ـ هـم یـدٌ واحـدةٌ عَلَیَّ: وہ میرے خلاف ملے ہوئے ہیں ـ وَضَعَ یَدَهُ علی: پر قبضہ کرنا ـ یَدُهُ قصیرةٌ: وہ نااہل ہے، اس کے اختیارات محدود ہیں ـ یَدَوِی: ہاتھ کا ـ شُغل یَدَوِی یا عمل یَدَوِی: ہاتھ کا کام ـ صـنـاعة یَـدَوِیَّة: دستکاری ـ طراز یَـدَوِیٌّ: (کسی آلہ کا) ہاتھ سے کام کرنے والا نمونہ ـ العَـمَـلَـةُ الیدویون: ہاتھ سے کام کرنے والے محنت کش لوگ ـ

یرب: الیَـرْبُوع جمع یَـرَابِیع (ح) چوہے کے مانند ایک جانور جس کی اگلی ٹانگیں کوتاہ اور پچھلی بڑی اور دم دراز ہوتی ہے ـ

یرج: الیارَج: کنگن (فارسی لفظ) الایَارَجَة جمع ایَاج (طب): ایک دست آور معجون (فارسی لفظ)

یرع: یَرِعَ یَرَعَ یَرَعًا: بزدل ہونا ـ الیَرَع (ح): جنگلی گائیوں کے بچے ـ مچھر کی طرح کی ایک چیز جو چہرے کو ڈھانپتی ہے ـ بھنگا ـ الیَـرَاع: بزدل، کمزور، عقل و رائے نہ رکھنے والا، نرکل، قلم، بانسری (ح): چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریاں وغیرہ، (ح): جگنو، بھنگا الیَـرَاعة: احمق، بزدل ـ الیَـرَاع کا واحد مکھی، نرکل، بانسری، قلم، جھاڑی، (ح) شتر مرغ ـ

یرق: یُرِقَ: یرقان زدہ ہونا ـ الیَـرَقَان و الیُرَقان (یونانی لفظ): کھیتی کا ایک روگ (ح) ایک قسم کا کیڑا جو کھیتی کو خراب کرتا ہے ـ طب: یرقان، پیلیا (ایک مرض) ـ الیـرَقـانة (ح): وہ شکل جو بعض حیوانات، حشرات الارض اور مچھلیوں کی بعض اقسام کی طرح اپنی پیدائش کے موقع پر اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ اسی مرحلہ پر بہت خطرناک ہوتے ہیں ـ کیڑوں مکوڑوں کا پہلا روپ: لاروا (Larva) ـ الـمَیْـرُوق و الـمَـارُوق من الزرع و الناس (طب): یرقان زدہ کھیتی یا انسان ـ

○ یرقان: پودوں کی ایک بیماری، پھپھوندی یرقان: اسم جنس واحد یرقانة: (لاروا، کیڑوں کوڑوں) کے پہلے روپ ـ یـرقـانُ الـضـفـادع: مینڈک کے بچے ـ مَیْـرُوق: پھپھوندی دار، پھپھوندی سے متاثر، یرقان زدہ ـ

یرم: الیَرْمَع جمع یَرَامِع: پھر کی سفید چمکنے والی کنکریاں ـ

○ الیَرْمُوك: شمالی مغربی اردن میں دریائے یرموک ـ

یرن: ۱ـ الیَرُون: ہاتھی کا دماغ، جانور کا پسینہ ـ ۲ـ یـرنـا یَـرْنَـأَ الشَّیْءَ: کو مہندی سے رنگنا ـ الیُـرنـاء والیَرَنَّا والیُرَنَّا (ن): مہندی

یزیدی: یَزِیدِی: یزیدی، یزیدی فرقہ سے متعلق ـ الیَزِیْدِیَة: یزیدیوں کا مذہب (کردستان کے) یزیدی یا شیطان کے پجاری ـ

○ یَزْرَجَة: نجوم، جوتش

○ یَزَرْکِی جمع یَزَک: پہرہ دار، سنتری

○ یَازُول: جنگلی لہسن کی ایک قسم

یسر: ۱ـ یَسَرَ یَیْسِرُ یَسْرًا و یَسَرًا: نرم ہونا، مطیع ہونا ـ ــتِ المرأةُ: عورت پر زچگی آسان ہونا ـ یَسْرًا: جوا کھیلنا ـ القومُ الناقةَ: لوگوں کا اونٹنی کے گوشت کے حصے کرکے آپس میں بانٹ لینا ـ یَسُـرَ یَیْسُرُ یُسْرًا و یَسَرَ یَیْسَرُ یَسَرًا الامرُ: آسان ہونا صفت: یَسِیر ـ یَسَّرَ الشَّیْءَ لفلان: کے لئے کسی چیز کو آسان کرنا، سہل کرنا، کیلئے کسی چیز کا حصول آسان کرنا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ــ الرَّجُلَ: آدمی کی اونٹنیوں اور بکریوں کا جننا آسان ہونا ـ ــت الغنمُ: بکری کی نسل اور اس کا دودھ بڑھنا ـ یَاسَرَ مُیَاسَرَةً: سے نرمی برتنا، سے سہولت کا برتاؤ کرنا ـ اَیْسَـرَ اِیْسَـارًا: مالدار ہونا صفت مُـوسِـر جمع مَیَاسِیرُ ــ الرجُلَ: کے ساتھ مطالبہ میں آسانی برتنا ــ ت المرأةُ: عورت پر زچگی آسان ہونا ـ تَیَسَّرَتِ البلادُ: ملک کا سرسبز ہونا ــ الامرُ: آسان ہونا ــ النهارُ: دن کا ٹھنڈا ہونا ــ للقتال: جنگ کے لئے تیار ہونا ـ تَیَاسَرَ: آپس میں آسانی برتنا ـ واِتَّسَرَ و اتیسر الـقـوم: جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کو آپس میں تقسیم کرنا ـ کہا جاتا ہے تَیَاسَرَتِ الأهواءُ قلبَهُ: خواہشات نے اس کے دل کو سخت کوفت پہنچائی ـ اِسْتَیْسَرَ لَهُ الأمرُ: کے لئے کام تیار ہونا ــ الامرُ: کام آسان ہونا ـ الیَاسِر (فا) ج اَیْسَار: سہل آسان، جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کی تقسیم کا انتظام کرنے والا، قصاب ـ الیُسْر (ن): ایک درخت جس کے بیج نہایت سیاہ اور خوشبودار ہوتے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہیں اور کھیلنے کیلئے دھاگے میں پروئے جاتے ہیں۔ ــــ والیُسْر و الیَسَارَۃ: سہولت، آسانی، آسودگی، خوشحالی الیَسَر (مص) جمع ایسار: آسان، جوا کھیلنے والوں کی جماعت۔ تیار کردہ، تیار شدہ، مہیا شدہ الیَسَرَۃ جمع ایسار و یَسَرات: ہاتھ کے غیر متصل خطوط، دونوں رانوں کے داغ، الیَسَرات ہلکی ٹانگیں۔ الیَسار: آسانی، سہولت، تونگری، الیَسِیر آسان۔ والیسور جمع یُسُر: غالب، جوئے میں شکست دینے والا۔ الأیْسَر: زیادہ آسان، زیادہ سہل۔ المَیْسِر: جوا (ہر قسم کا)، تیروں کا جواء۔ وہ ذبح شدہ جانور جن پر جوا کھیلا جاتا تھا۔ اونٹ ذبح کر کے اس کے دس یا اٹھائیس حصے کر لیتے۔ پھر تیروں سے قرعہ ڈالتے جس کے نام پر بے نشان کا تیر نکلتا اس کو ذبح شدہ اونٹ کی تمام قیمت دینی پڑتی۔ جس کا تیر جیتتا وہ ذبح شدہ جانور سے اپنا حصہ لے لیتا تھا۔ المَیْسَرَۃ والمَیْسُرَۃ: سہولت، آسانی، تونگری، خوشحالی، آسودگی المَیْسُور جمع مَیَاسِیر: کامیابی سے کیا ہوا کام، آسان۔

۲۔ یَسَرَ یَیْسِرُ یَسْراً الرجُلَ: کے پاس بائیں طرف سے آنا۔ یَاسَرَ مُیَاسَرۃً: کے بائیں طرف سے اس کے پاس آنا۔ ـ الشیٔ کو بائیں طرف لینا ــ بالقوم: کے بائیں طرف رہنا۔ تَیَاسَرَ الرجُلُ بائیں جانب اختیار کرنا۔ ــــ القوم: کے بائیں طرف رہنا۔ الیَاسِر جمع ایسار: بایاں۔ رجُلٌ أَسَرُ یَسَرُ: دونوں ہاتھوں سے کام کرنے والا عَسْراء یَسْراء: دونوں ہاتھوں سے کام کرنے والی۔ الیسار و الیَسَار جمع یُسُر و یُسْر: بایاں۔ الیَسْرَۃ: بایاں۔ الیُسْرَی جمع یُسْرَیَات: بایاں۔ الأیْسَر: بائیں جانب والا۔ المَیْسَرَۃ جمع مَیَاسِر: بائیں جانب۔ فوج کا بایاں بازو۔

۳۔ یَسُرَ یَیْسُرُ یُسْرًا: تھوڑا ہونا صفت: یَسِیْر الیَسِیر: تھوڑا۔

○ یَسِرَ ـَ یَسَرًا آسان ہونا یا ہوجانا۔ یَسُرَ ـُ یُسْراً: چھوٹا، تھوڑا یا غیر اہم ہونا۔ آسان ہونا یا ہوجانا۔ یَسَّرَ علی ہ: کے لئے کچھ ہموار کرنا، برابر کرنا، (راستہ) صاف کرنا (راہ) آسان کرنا، تیار کرنا، کیلئے کچھ آسان کرنا، ڈھیلا کرنا، کی شدت کم کرنا۔ یَسَّرَ السبیلَ امامَہُ لِ: کیلئے راستہ ہموار کرنا کہ وہ......کو کے قابل بنانا۔ یَاسَرَہ: کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، کے ساتھ بہت مہربان، شفیق یا مشفق ہونا کے ساتھ با مروت یا با اخلاق ہونا یا نرم ہونا، کو خوش کرنا، کی بات ماننا، أیْسَرَ: آسودہ، حال میں رہنا، دولتمند ہونا یا ہو جانا، خوش قسمت ہونا، خوش بخت ہو، عورت کی زچگی کا آسان ہونا، تَیَسَّرَ: آسان ہوجانا، آسان بنادیا جانا، آسان کیا جانا، کامیاب ہونا، آخر کار کامیاب ہونا، پھلنا پھولنا، پنپنا، ترقی کرنا، فروغ پانا، سرسبز ہونا، بار آور ہونا، خوش وخرم ہونا۔ ل: کے لئے ممکن بنادیا جانا، کے لئے ممکن ہونا اِسْتَیْسَرَ: آسان ہونا، کامیاب ہونا، بہرہ مند ہونا، یُسْر: راحت، آرام، چین، سکھ، آسودگی، آسائش، سہولت، آسانی، ملائمت، آسان اور خوشگوار حالات، اقبال مندی، کامیابی، بہبودی، فلاح، دولتمندی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، کثرت، افراط، وفور، نفس پرستی، عیش وعشرت، ناز ونعمت، عیش پسندی، تعیش۔ یَسْرَۃ بائیں جانب۔ یَسَار: راحت، آرام، چین، سکھ، آسودگی، آسائش، سہولت، اقبال مندی، کامیابی، بہبود، فلاح، دولتمندی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، کثرت، افراط، وفور، عیش وعشرت، ناز ونعمت، عیش پسندی، تعیش، ہاتھ، بایاں جانب، یساراً یا عن الیسار: بائیں طرف (کو)۔ یَسَارِی: بائیں بازو والا، اشتراکی، انقلابی، بایاں بازو، یُسْرَی جمع یُسْرَیَات: بائیں جانب الیُسْرَی: بایاں ہاتھ، یَسِیر: تھوڑا، تھوڑا سا، چھوٹا، معمولی، غیر اہم، تھوڑا (وقت)، سادہ، غیر پیچیدہ، سیدھا سادہ، صاف، واضح، ــ علی: کے لئے آسان۔ أیْسَر: زیادہ آسان، زیادہ چھوٹا، زیادہ کم، زیادہ معمولی یا غیر اہم، زیادہ کامیاب، زیادہ بامراد، زیادہ کامران، زیادہ اقبال مند، زیادہ سرسبز، زیادہ موافق، زیادہ دولتمند، بایاں، کھبا، بائیں ہاتھ کا، بائیں جانب کا، مَیْسِر: تیروں سے کھیلا جانے والا جوا، جس کی قرآن حکیم نے ممانعت کردی۔ مَیْسَرَۃ جمع مَیَاسِر: بائیں جانب، فوج کا بایاں پہلو، مَیْسَرَۃ و مَیْسُرَۃ: راحت، آرام، چین، سکھ، اقبال مندی، بہتات، دولت، افراط، کثرت، تونگری، مرفہ الحال، دولتمندی، تعیش، ناز ونعمت، عیش پسندی۔ تَیْسِیر: آسانی، سہولت، جمع تَیْسِیرات۔ مَیْسُور جمع مَیَاسِیر: آسانی سے کیا ہوا، آسان دسترس یا پہنچ میں، تعمیل کرنے میں آسان، کسی مشکل کے بغیر قابل عمل، آسان، کامیاب، خوش قسمت، بامراد، اقبال مند، سرسبز، ہرا بھرا، مبارک، خوشحال، دولتمند۔ مُیَسَّر: آسان بنایا ہوا، آسان رسائی یا دسترس میں، کامیاب، خوش قسمت، اقبال مند، بامراد، خوش حال، دولتمند امیر۔ مُوسِر جمع مُوسِرُون ومَیَاسِیر اقبال مند، بامراد، خوش حال امیر۔ مُتَیَسِّر: آسان بنایا ہوا، آسان، آسان رسائی یا دسترس میں، دستیاب، موجود، ہموار اور کامیاب راہ پر گامزن، روانی سے رواں، کامیاب، خوش قسمت، بامراد، اقبال مند، خوش حال مُتَیَسِّرُ الحال: خوش حال، آسان حالات میں۔

○ یَسَقْجِی مسلح مصاحب، قفل کا محافظ۔

یسم: الیَاسَمُون (ن): یاسمین، چنبیلی، الیاسمین: چنبیلی۔

یسن: یَسِنَ یَیْسَنُ یَسَنًا الماءُ: پانی متغیر ہونا، کھاری ہونا۔

یشب: الیَشْب والیَشْف والیَشْم: سنگ یشب زبر جد جیسا ایک قیمتی پتھر جو زبرجد سے زیادہ شفاف ہوتا ہے (عبرانی یا فارسی لفظ)

○ یَشْمَق و یَشمك: (ترکی لفظ) عورتوں کا چہرے کا نقاب۔

یصب: الیَصْب والیَصْف: بمعنی الیَشْب۔ سنگ یشب یا نیلم۔

یصر: الأیْصر جمع اَیَاصِر: سوکھی گھاس۔

○ یَعْبُوبُ: تند و پرشور دریا۔

یعر: یَعَرَ یَیْعِرُ ویَیْعَرُ یُعَاراً تِ الشاۃ او المعزی: بکری کا ممیانا۔ الیَعْر والیَعْرَۃ جمع یِعَار (ح) بکری کا بچہ جس کو شیر یا بھیڑیے کے شکار کے لئے گڑھے کے پاس باندھتے ہیں۔

یعس: الیَعْسُوب (ح): شہد کی نر مکھی۔

یعف: الیَعْفُور (ح): ہرن۔

○ یَعْقُوب: حضرت یعقوب علیہ السلام

یغر: الیَغُر (ح): کتے سے چھوٹا بلی سے بڑا ایک جانور جسے الغُرَیر بھی کہتے ہیں۔

یفخ: یَفَخَ یَیْفَخُ یَفْخًا الولدَ: لڑکے کی چندیا پر مارنا الیافوخ یا الیأفُوخ جمع یَوَافِیخ: بچہ کا تالو جو حرکت کرتا ہے۔ صَدَعَ القومُ یافوخ اللیل: جب لوگ رات کی تاریکی میں چلیں تو یہ بات کہی جاتی ہے۔ مَسَّ بیافوخہ السَمَّاك: یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی تکبر کرے۔ وطیٔ فلانٌ یوافیخ القُرُوم: جب کس شخص کو سربراہی سپرد کی اے تو اس وقت کہا جاتا ہے۔

○ یَفْطَۃ (یافِطَۃ): سائن، سائن بورڈ، نام کی تختی، دروازہ کی پلیٹ، سجاوٹی یا زیبائشی تختی، آرائشی لوح۔

یفع: یَفَعَ یَیْفَعُ یَفْعًا وأیْفَعَ الغلامُ: لڑکے کا بڑھنا اور بلوغت کو پہنچنا۔ ــــ الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ تَیَفَّعَ الغلامُ: لڑکے کا بڑھنا اور بلوغت کو پہنچنا۔ ــ الرجُلَ:

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اونچے ٹیلے پر چڑھنا، اونچے ٹیلے پر آگ جلانا۔
الیَافِع جمع یَفَعَة و یُفعَان (فا) ۔ غلامٌ یَافِعٌ: نوجوان لڑکا۔مَجدٌ یافِعٌ: بلندشان۔الیَافِعَة جمع یافِعات: یافِع کا مونث، نوجوان لڑکی، الیافعاتُ من الامور: طاقت سے بالاتر کام۔
الیافعات من الجبال: بلند پہاڑ۔الیَفَع و الیَفَاع جمع یُفُوع: اونچا ٹیلہ، بلندزمین۔غلامٌ یَفَعٌ جمع ایفاع: نوجوان لڑکا۔الیَفَعَة: نوجوان جو بلوغت کے قریب پہنچے۔(واحد تثنیہ جمع یکساں) جیسے غلامٌ یَفَعَة و غلامانِ یَفَعَةٌ و غِلمانٌ یَفَعَةٌ۔ المَیفَعَة جمع مَیافِع: بلندزمین۔
۞ یَفَعَ ـــ یَفعًا: نوبلوغت کو پہنچنا، سن بلوغ میں ہونا۔
اَیفَعَ و تَیَفَّعَ: بمعنی یَفَعَ۔ یَفع: سن بلوغت، نوبلوغت۔یَفَع: پہاڑی، میدان، پہاڑی علاقہ، جمع ایفاع: بالغ عمر لڑکا، نوجوان، نئی جوانی والا۔نوخیز۔
یَفَاع: پہاڑی۔یافِع: بالغ عمر لڑکا، نوجوان، نوخیز۔
یفن: الیَفَن جمع یُفُن: پیرفرتوت، بوڑھا بیل، گونا گوں صنعت والا۔
یق: یَقَّ یَیَقُّ یُقُوقَةً: سفید ہونا۔الیَقَق (ٹکڑا یَقَقَة) روئی، کپاس، کھجور کے اندر کا سفید گودا، کہا جاتا ہے: ابیضُ یَقَقٌ و یَقِقٌ جمع یَقَائِق: بہت سفید۔
یقت: الیاقوت واحدیاقوة جمع یَوَاقیت: یاقوت، ایک قیمتی پتھر (یونانی لفظ)
یقط: الیَقطِین: واحدیقطینہ (ن): بیل۔عزیادہ تر کدو کے لئے مستعمل ہے۔
یقظ: یَقِظَ یَیقَظُ یَقَظًا و یَقُظَ یَیقُظُ یَقَاظَةً: جاگنا، محتاط ہونا، چوکنا ہونا، سمجھدار ہونا۔صفت: یَقِظ و یَقُظ و یَقظَان جمع اَیقَاظ مونث یَقظَی جمع یَقَاظَی۔
یَقَّظَ تَیقِیظًا الغبارَ: غبار اٹھانا۔اَیقَظَ اِیقَاظًا فلانًا۔ کو بیدار کرنا۔جگانا ـــ الغبارَ: غبار اٹھانا۔
تَیَقَّظَ تَیَقُّظًا: بیدار ہونا۔کہا جاتا ہے: تَیَقَّظَ لِلاَمرِ: وہ کام کے بارے میں محتاط اور چوکنا ہوگیا۔
اِستَیقَظَ اِستِیقَاظًا: بیدار ہونا ـــ ہٗ: کو بیدار کرنا، نیند سے جگانا۔الیَقَظَة: بیداری۔ابو الیقظان (ح): مرغ
۞ یَقَّظَ و اَیقَظَ ہٗ: کو ابھارنا، ہوشیار کرنا، کا باعث بننا ـــ ہٗ: کو خبردار کرنا، متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، جگانا، ہوشیار کرنا، چوکنا کرنا، چوکس کرنا۔تَیَقَّظَ: بیدار ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا، ہوشیار ہونا۔اِستَیقَظَ علی: سے جاگ جانا، سے نیند سے بیدار ہوجانا ـــ: خود کو جگانا، بیدار ہونا، ہوشیار ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا۔یَقُظ و
یَقِظ جمع اَیقَاظ: بیدار، چوکس، چوکنا، ہوشیار، محتاط،
یَقظَة و یَقَظَة: جاگنا، بیداری، چوکسی، بےخوابی، شب بیداری کا مرض، خبرداری، ہوشیاری، بیدار مغزی، احتیاط، چستی، مستعدی، ذہانت، ذہن کی تیزی یَقظَان مونث یَقظَی جمع یَقَاظَی: بیدار، متوجہ، چوکس، چوکنا، ہوشیار، خبردار، محتاط۔
یقن: یَقِنَ یَیقَنُ یَقنًا و یَقَنًا الاَمرُ: روشن وثابت ہونا صفت، یقین۔ ـــ واَیقَنَ و تَیَقَّنَ و استَیقَنَ الاَمرَ وبہ: کو جاننا، پریقین کرنا۔الیَقَن: شک کا ازالہ، ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر لینے والا۔الیَقِن: ہر سنی ہوئی بات پر یقین کرنے والا۔رجُلٌ یَقِنٌ بالشیء: کسی شے پر فریفتہ آدمی۔الیَقن و الیَقَنَة و المِیقان مونث مِیقانة: ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر لینے والا۔الیقین: شک کا ازالہ، یقینی بات، دیکھنے اور دلائل سے حاصل ہونے والا علم۔(کہا جاتا ہے: أنا علی یقینٍ منہ: مجھے اس کا پورا یقین ہے) حق الیقین: واضح اور خالص یقین: امرٌ یَقِینٌ: سچا واضح امر۔
۞ یَقِنَ ـــ یَقنًا و یَقَنًا: یقین رکھنے والا ہونا، پریقین ہونا، غیرمتذبذب ہونا۔ہ باب: کو بےشک اور یقینًا جاننا، کے متعلق پریقین ہونا، خود اعتمادی والا ہونا کا یقین کرنا، باور کرنا، ماننا۔اَیقَنَ و تَیَقَّنَ و استَیقَنَ ہ باب: کو جانچنا، معلوم کرنا، کی تحقیق کرنا، کا پتہ چلانا، کے بارے میں اپنی تسلی کرنا۔کو بلاشبہ وشک جاننا، معلوم کرنا، کے بارے میں پریقین ہونا، قائل ہونا، کو ماننا۔یَقن و یَقَن: ایقان، یقین یقینی امر تحقق، تیقن۔یَقَن و یَقُن و یَقِن و یَقِنَة: خوش اعتقاد، ضعیف الاعتقاد، بھولا، صاف، بےتصنع، شبہ نہ کرنے والا یَقِینٌ ب: کے بارے میں تیقن، کا پختہ یقین۔
یَقینًا: یقینًا، بےشک، لازمًا، وثوق سے اَنا علی یقینٍ مِن اَنَّ یا اَنا علی یقین اَنْ: مجھے پورا یقین ہے کہ، میں مان گیا کہ، میں پریقین ہوں کہ کُونُوا علی یقین: آپ لوگ یقین رکھ سکتے ہیں۔یَقِینِی: قطعی، یقینی، حتمی، صریحی، صریح، مثبت، ایجابی، ٹھوس، ناقابل تردید، معین طور، مسلم۔مِیقان: ضعیف الاعتقاد، خوش اعتقاد، شبہ نہ کرنے والا۔مُوقِنٌ ب: کا قائل، کو ماننے والا، پریقین رکھنے والا، کے بارے میں پریقین۔
یلک: الیُلکَّة (ن) ایک قسم کا پودا جس کے پتے تلوار جیسے ہوتے ہیں پھول سفید اور گلابی رنگ کے اور آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔
یلّ: یَلَّ و یَلِلَ و یَیلَلُ و یَلَلًا: چھوٹے یا ہموار اور اندر کی جانب گھسے ہوئے دانتوں والا ہونا صفت اَیَلّ مونث یَلّاء جمع یُلّ
یلب: الیَلَب: چمڑا، چمڑے کی ڈھال یا چمڑے کی یمنی زرہیں، چمڑے کی ٹوپیاں (واحد یَلَبَة) فولاد، خالص لوہا، ہر بڑی چیز
یلق: ا۔ الیَلَق: سفید، کہا جاتا ابیض یَلق و لَهَق و یَقَق: ان سب کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے: بہت سفید۔الیَلَقَة او الیَلَق (ح) سفید بکری ۲۔ الیَلمَق جمع یَلامِق: قبا (فارسی لفظ)
یلن: الیَلَنجَج و الاَلَنجَج و الیَلَنجُوج و الاَلَنجُوج: صندل کی لکڑی
یمّ: ا۔ یُمَّ یُیَمُّ یَمًّا: سمندر میں پھینکا جانا۔ ـــ الساحلُ: ساحل کا سمندر کے نیچے آنا۔الیَمّ: سمندر
۲۔ یَمَّمَ ہٗ: کا قصد کرنا ـــ فلانًا برمحہ: کسی کو خاص طور پر نیزے کا نشانہ بنانا ـــ المریضَ للصلاۃ: مریض کو نماز کے لئے تیمم کرانا۔تَیَمَّمَ الاَمرَ: کا ارادہ کرنا، کو اراد تا کرنا ـــ للصلاۃ: نماز کے لئے ہاتھ منہ پر مٹی سے مسح کرنا۔الیَمَام و الیَمَامَة: قصد، ارادہ، کہا جاتا ہے: امض یَمَامتی: میرے آگے چل۔المُیَمَّم: مطالب میں کامیاب۔
۳۔ الیَمّ (ح): سانپ ـــ والیَمَم والیمام (ح): جنگلی کبوتر، الیَمَامَة (ح) جنگلی فاختہ۔
یَمَّمَ ہ یاصوبَ یانحوَ یا شطرَ: جانا کسی جگہ یا اس کی طرف، کا رخ کرنا، کی راہ لینا، کی طرف بڑھنا ـــ ہ: کو چلانا، موڑنا، یَمَّمَ فی فم البرکان: شیر کی ماند میں جا گھسنا یَمَّمَ وجهَهُ شطرَ: کی طرف چہرہ یا رخ کرنا تَیَمَّمَ ہ: (کسی جگہ) جانا، کی طرف بڑھنا، کی طرف جانا، کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، سے مراد ہونا۔
یَمّ جمع یُمُوم: کھلا سمندر، پہلو، جانب مِن یَمّی میری جانب سے، میری طرف سے یَمام اسم جنس واحد یَمَامَہ جمع یَمامات و یمائم: کبوتر، قمری، فاختہ۔
یمن: یَمَنَ یَیمَنُ یَمنًا الرجُلَ: کے دائیں طرف سے آنا، کی سیدھی جانب سے آنا ـــ یُمنًا و مَیمَنَةً لقومہ و علی قومہ: کے لئے بابرکت ہونا، صفت: یَامِن و یَمِین واَیمَن و مَیمُون:۔ یَمُنَ و یَمِنَ یُمنًا بہ: کو دائیں طرف لیجانا یَمَنَ یَمنًا و یُمنًا اللّٰہُ فلانًا: اللہ کا کسی کو مبارک بنانا۔ایسا شخص میمون اور اللہ تعالیٰ یَامِن و یَمِین (جیسے قادرو قدیر میں) ہوگا۔یَمِنَ یَیمَنُ یَمنًا الرجُلَ: کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دائیں طرف سے آنا ــــ يَمَنُ و يَامَنُ و يَمُنَ يَيْمُنُ و يُمِنَ يُمْنًا و مَيْمَنَةً لقومه و على قومه: کے لئے مبارک ہونا صفت: يَامِن و يَمِين و أَيْمَن و مَيْمُون: يَمَّنَ: دائیں طرف جانا، ملک یمن کی طرف جانا، ملک یمن میں جانا، ــــ به: کو دائیں طرف لیجانا ــــ عليه: کو برکت دینا۔ يَامَنَ يُيَامِنُ مُيَامَنَةً: دائیں طرف جانا، ملک یمن کی طرف جانا، ملک یمن میں جانا ــــ به: کو دائیں طرف لیجانا۔ أَيْمَنَ و تَيَامَنَ: دائیں طرف جانا، ملک یمن کی طرف جانا، یا ملک یمن میں آنا۔ تَيَمَّنَ: یمن کی طرف منسوب ہونا۔ ــــ الرجُلُ: آدمی کا مر جانا۔ دائیں ہاتھ یا پاؤں سے کام یا حرکتیں شروع کرنا۔ بكذا: سے برکت لینا، نیک فال لینا۔ ــــ بالميّت: میت کو قبر میں دائیں پہلو رکھنا اِسْتَيْمَنَ اِسْتِيمَانًا الرجُلَ: کو قسم دلانا ــــ بكذا: سے برکت حاصل کرنا۔ اليَامِن مونث يَامِنَة: برکت والا۔ اليُمْن: برکت اليَمَن: دائیں جانب۔ ملک یمن۔ اليَمَنِي و اليَمَانِي جمع يَمَنِيُّون و يَمانُون و يَمانِيُّون: یمن کا، یمنی، ملک یمن کا باشندہ۔ اليَمْنَة: دائیں جانب ــــ و اليُمْنَةَ: یمنی چادر۔ الأيْمَن م يَمْنَاء جمع يُمْن و ايَامِن: دایاں پہلو یا عضو۔ کہا جاتا ہے: ذهب إلى ايمن الإبل: وہ اونٹوں کے دائیں طرف سے گیا۔ نظر ايْمَنَ منه: اس نے دائیں طرف سے دیکھا اليُمْنَى تثنية يُمْنَيَان جمع يُمْنَيَات: دائیں طرف، دایاں عضو۔ التَيْمَن: جنوب اليَمِين جمع أيْمَان: برکت، قوت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ عندنا باليمين: فلاں شخص ہمارے ہاں اچھے مرتبہ والا ہے۔ قدم على أيمنِ اليَمِينِ: وہ خوش قسمتی اور برکت لے آیا۔ جمع ايْمُن و ايْمان: قسم (مونث)۔ ايْمُنُ اللّٰهِ: اللہ کی قسم (تقدیر کلام اسی طور پر ہے: ايْمُنُ اللّٰه قسمي) اس میں بہت سی لغات ہیں۔ اور اس کی ہم معنی ہیں۔ جیسے: اَيْمُنُ اللّٰهِ و اِيمُنُ اللّٰه و ايْمَنُ اللّٰه و أيمنُ اللّٰهِ نیز ايْمُ اللّٰه و اِيمِ اللّٰه و أم اللّٰه (میم کی تثلیث سے) و مِن اللّٰه میم اور نون کی تثلیث کے ساتھ) و م اللّٰه (میم کی تثلیث سے)۔ یہ بھی کہا جاتا ہے يمينُ اللّٰه لا افعل (خدا کی قسم میں نہیں کرتا) ــــ ج ايْمُن و ايْمان و ايَامِن و ايَامين: دائیں طرف۔ دایاں عضو۔ اس کی تصغیر يُمَيْن (ہاء کے بغیر) جمع يَمانٍ۔ المَيْمَنَة جمع مَيَامِن: برکت، لشکر کا دایاں بازو۔ المُيَمَّن: برکت لانے والا المَيْمُون جمع مَيَامِين: مبارک۔ کہا جاتا ہے: هو مَيْمُونُ الطائِرِ: وہ مبارک چہرے والا ہے۔ سِرْ على الطائِرِ الميمونِ: تم توفیق کے ساتھ سفر کرو (مسافر کیلئے دعا ہے)۔

○ يَمَنَ ـُ و يَمِنَ ـَ و يَمُنَ ـُ يُمْنًا و مَيْمَنَةً: خوش نصیب، مبارک، خوش قسمت یا مسعود ہونا۔ يَمَّنَ: دائیں طرف جانا۔ تَيَمَّنَ ب: میں اچھا شگون دیکھنا، اِسْتَيْمَنَ ب: میں اچھا شگون دیکھنا۔ يُمْن: اچھی قسمت، خوش نصیبی، خوش قسمتی، اقبال مندی، کامیابی، يَمَن و يَمْنَة: دائیں طرف، دایاں ہاتھ۔ يَمَنًا دائیں طرف، دائیں جانب، دائیں ہاتھ۔ يَمْنَةً: بمعنی يَمَنًا۔ شاماً و يمناً: شمال یا جنوب کی طرف۔ يَمْنَةً و يَسْرَةً: دائیں اور بائیں اليمن: ملک یمن۔ يمني: ملک یمن کا، یمنی (باشندہ) يَمِين (مونث) جمع ايْمَان: دائیں جانب، دائیں ہاتھ يَمِينًا يا من اليمين: دائیں طرف، دائیں ہاتھ۔ يَمِينًا و شمالًا: دائیں اور بائیں۔ ما ملكت (تملك) يمينهُ: کی جائیداد، يَمِين (مونث) جمع ايْمُن و ايْمان: قسم: يمين الامانة: اطاعت و فرمانبرداری کی قسم۔ يمين الصبر: جھوٹا حلف يمين قانونية: عہدہ کا حلف۔ سرکاری حلف۔ يمين كاذبة: جھوٹا حلف۔ يمينُ الوَلاء و الاخلاص: حلف وفاداری۔ اَيْمُنُ اللّٰهِ و ايم اللّٰهِ: میں خدا کی قسم کھاتا ہوں۔ يَمِيني: دایاں، دائیں جانب یا دائیں ہاتھ کا اليَمِينِيُّون: دائیں بازو کی پارٹیاں۔ يُمْنَى جمع يُمْنَيَات: دایاں ہاتھ۔ دائیں جانب۔ ايْمَن مونث يُمْنَى: دائیں ہاتھ، دایاں، دائیں طرف، خوش نصیب۔ مَيْمَنَة جمع مَيَامِن: دائیں جانب (فوج یا لشکر کا) دایاں بازو۔ تَيَمُّن: برکت، نیک شگون، نیک فال۔ مَيْمُون جمع مَيَامِين: خوش نصیب، خوش قسمت، خوش بخت، مبارک، بندر، مَيْمُونُ الطائِرِ: مبارک، آسودہ، خوشحال، مناسب حال، امید افزا۔ على الطائِرِ الميمون: کامیاب سفر، خدا حافظ۔ مُيَمَّن: خوش نصیب، مبارک

○ يَنايِر و يَنايَر: جنوری (سال کے پہلے مہینہ کا نام)۔

ينب: ١- اليَنْبُوت (ن): ایک پودا جس کی لکڑی سخت ہوتی ہے۔ ایک پودا کپاس کی قسم کا۔

٢- اليَنْبُوع: چشمہ (پانی کا)

ينس: اليَانْسُون (ن): ایک قسم کی خوشبودار نباتات۔ بادیان، سونف۔

ينع: يَنَعَ يَيْنَعُ و يَيْنِعُ يَنْعًا و يُنْعًا و يُنُوعًا الثمرُ: پھل کا پکنا۔ صفت يَانِع جمع يَنْع و يَنِيع: ــــ الشئُ: چیز کا بہت سرخ ہونا ايْنَعَ الثمرُ: پھل کا پکنا۔ اليَانِع: ہر سرخ چیز اليَنَعُ واحد يَنَعَة: سرخ مہرے، عقیق کی ایک قسم۔ اليَنُوع: خون کی سرخی۔

○ يَنِيع: پکا ہوا، میٹھا، ملائم، نرم، رسیلا اِيناع: (پھل کا) پکنا، نرم ملائم میٹھا اور رسیلا ہونا يانع: پکا، میٹھا، رسیلا، نرم اور ملائم۔

ينم: اليَنَمُ: واحد يَنَمة (ن): ایک قسم کی نباتات

يهت: ايْهَتَ اِيهَاتاً اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔

يهر: ١- اِسْتَيْهَرَ: بے عقل ہونا ــــ في الأمر: کو جاری رکھنا، کی انتہا تک جانا۔ اليَهْر و اليَهَر: کشادہ جگہ، کسی امر کو جاری رکھنا، کی انتہا تک پہنچنا۔

اليَهْيَرُّ: لجاجت، سخت پتھر۔

اليَهْيَرَّى: بہت پانی، المُسْتَيْهِر (فا) بہت لجاجت کرنے والا۔

٢- اِسْتَيْهَرَ بالأمر: پر یقین کرنا۔

٣- اليَهْيَرّ: سراب، جھوٹ (ن): اندرائن۔ زہر۔ اليَهْيَرَّى: باطل۔

يهف: اليَهْفُوف: بزدل، احمق، چٹیل زمین، ہوشیار و بیدار دل۔

يهم: اليَهَم: جنون۔ الأيْهَم مونث يَهْمَاء جمع يُهْم: پاگل، خشکی، بلند پہاڑ، بہرا، دلیر و بہادر آدمی، چکنا پتھر، بے نشان شہر۔ ليلٌ ايْهَمُ: بے تاروں کی رات اليَهْماء: الایہم کا مونث: بے آب اور بے نشان راہ بیابان، سخت تنگی کا سال، مضبوط اونٹنی۔ ارض يَهْماء: بے اثر و نشان اور بے چراگاہ زمین۔ سنون يُهْمٌ: بے آب و گیاہ سال۔

يهو: يَهُود: دیکھئے مادہ ہود۔

○ يُوبِيل: یہودیوں کا جشن آزادی، پچاسویں سال کا جشن، پچاسویں سالگرہ، مسرت اور جشن کا سال (Jubilee)

يوح: يُوح و يُوحَى: سورج۔ کہا جاتا ہے: جعلك اللّٰه اعمر من نوح و انور من يُوح تجھے اللہ تعالیٰ حضرت نوحؑ سے زیادہ عمر دے اور سورج سے زیادہ روشن کرے۔

○ يُوحَنّا: انگریزی کا اسم معرفہ (john) ○ يوحنا الصابغ: بپتسمہ دینے والا یوحنا۔

يود: اليود (ك): آئیوڈین (iodine) بنفشين،

يُورَانِيُوم: یورانیم (Uranium)

○ يوزُباشي جمع يوزباشيه: کیپٹن، بیٹری کمانڈر، (بحری) لیفٹیننٹ (lieutenent)

يوسف: يوسفَ۔ يوسف آفندي (اسم جنس):

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چھوٹے سنترے (جو طنجہ میں پیدا ہوتے ہیں)
یُوْسُفی: چھوٹے سنترے۔
○ یُوْطَنَة: لیفٹیننٹ Lieutenant
○ یَـوْغُسَـلاوِیَـا: یوغوسلاویا Yusoslavia (ایک ملک کا نام) یَـوْغُسَـلافِی: یوغوسلاوی، یوغوسلاویا کا (باشندہ)۔
○ یَولِیُو و یَولِیَه: جولائی (ایک مہینے کا انگریزی نام)
یـوم: یَـاوَمَ یِـوَامًـا و مُیَاوَمَةً ۂ: کودنوں کی مزدوری پر رکھنا الیَوْم جمع اَیّـام وجج ایَـاوِیْم: فجر سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ مطلق وقت۔ کہتے ہیں ذخـــر تلک لِهـذا الیـوم: میں نے تم کو اس وقت کے لئے ذخیرہ بنایا تھا۔ــ الـنجمیّ (فلك): خط نصف النہار میں ربیع کے نقطہ اعتدال کے دو بار لگا تار گزرنے کے درمیان کا وقت۔ الیـوم الشـمسـی الـحـقیقی: حقیقی شمسی دن۔ ایّـامُ الـلّٰهِ: خدا اللہ کے دن یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی سزائیں۔ ایّامُ العَرَب: عربوں کی جنگیں اِبنُ الایام: زمانہ شناس اِبنُ الیوم: زمانہ ساز یَوْمٌ اَیْوَم: مہینہ کا آخری دن۔ یَوْمٌ اَیْوَمُ و یَـوِمٌ و وَوِمٌ و ذوایَّـــام و ذوا ایـا ویــم و ذوایایـم: مصیبت کا لمبا دن۔
○ یَوْم جمع ایّـام: دن۔ زمانہ، وقت، دور الیَوْمَ: آج۔ یَـوْمَ: اس دن جب۔ ایّـامَ: کے دنوں میں، دوران ایّـامًا: چندروز تک، چندروز کے لئے۔ ایّـامُهُ: (اس کی) عمر بھر، اس کی زندگی۔
یَوْمَهَا: تب، اس وقت، اس دن، یَوْمًا یا یـومًـامًا: کسی دن، کسی وقت، ان دنوں میں سے ایک دن۔ ذاتَ یومٍ: ایک دن، ایک دفعہ یومًا یومًا یا یوماً فیوماً یا یـومـاً بـعد یومٍ یا یـومـاً عن یومٍ: دن بدن، روز بروز، روزانہ، بــعـد الیـوم آج کے بعد، آئندہ، آج سے۔ فـی یـومٍ ولَیْلَةٍ: ایک سے دوسرے دن تک، رات کی رات، ایک رات پہلے۔ راتوں رات، رات بھر میں، اگلی رات میں۔ کُــلَّ یـوم روزانہ، ہر روز، مِـن یـومٍ اِلـی یـومٍ یـا مِن یومٍ لیوم: ایک سے دوسرے دن تک روز بروز، روزانہ۔ مِـن یومِهٖ: اس وقت سے آئندہ، آج سے، اب سے، آج کے بعد۔ مِـن ایام: چندروز قبل، گزشتہ چندروز۔ ذٰلِكَ بـایّام: اس کے چند دن بعد یــوم الاحــد: اتوار۔ یـومُ الاثنین: پیر۔ یـومُ الثلاثاء منگل یـومُ الاربعاء: بدھ یوم الخمیس: جمعرات یوم الجمعه: جمعہ یـوم السبت: ہفتہ۔ یـومٌ اَسْوَدُ: منحوس دن۔ یومِ الاشتـغال: کام کا دن۔ یَـوْمٌ اَیْوَم: برا دن۔ یومُ الـــدِیْـــن: فیصلہ کا دن۔ یوم جزا، یــومُ راس السـنة: نئے سال کا دن یـومُ عُـطْـلَةٍ چھٹی کا دن۔ فارغ دن۔ ابـنُ الیـوم: آج کا آدمی، نیا آدمی، ابـنُ یـومـه: ایک دن کا، مختصر، عارضی، آنی جانی، دم بھر کا، یک روزہ، چندروزہ، سریع الزوال۔ ابنُ الأیّام: دنیادار، تجربہ کار، تصنع والا، علی توالی الایام: وقت کے دوران وقت پر۔ یَوْمَئِذٍ: اس دن، اس وقت۔
یَومَذاك: اس دن، تب: یَـوْمِی: روز، ہر روز، روزانہ یومِیًّا: روزانہ، ہر روز یومیات: ہر روز کے واقعات، وقائع، تاریخ، روزانہ خبریں، جـریدة یومیة: روزانہ اخبار۔ یَوْمِیَة: روزانہ دیہاڑی، ایک دن کی مزدوری، روزانہ راشن، ایک دن کا کام، روزانہ کام، ڈائری، جرنل، بہی، روزنامچہ، کیلنڈر (Calendar)۔
مُیَـاوَمَةٌ: دن کے حساب سے کام، دن کی مزدوری۔
مُیَــاوَمَةً: روزانہ، دن کے حساب سے، عـــامـل معاومة: دیہاڑی کا مزدور۔
یــون: الیـونـان: یونانی لوگ۔ (واحــد یـونـانـی جمع یُونَانِیُون) ملک یونان۔
○ یونس: حضرت یونس علیہ السلام۔
○ الیـونـسـکو: هیئةُ الیونسکو: UNESCO اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور کلچرل تنظیم۔
یُونِیُو و یُونِیَة: جون (انگریزی مہینہ)
یوی: الیاوی: یاء کا، یاء سے منسوب
یین: الییَّنِیَّة: خود
ییی: ییَّا تییِیَةً الیاءَ: حرف یاء لکھنا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عربوں کے ادبی جواہر پارے، جو ان کی ضرب الامثال، محاورات اور حکیمانہ اقوال پر مشتمل ہیں

❁ إبلي لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ: یہ میرے اونٹ ہیں، میں نے انہیں نہ تو کسی کے ہاتھ بیچا ہے اور نہ کسی کو ہبہ کئے ہیں۔ یہ ضرب المثل اس ظالم کے بارے میں ہے جو آپ سے ایسی چیز پر جھگڑا کرے جس پر اس کا کوئی حق نہ ہو۔

❁ یا إبلي عُودِي إلي مَبَارِكِكِ: میرے اونٹو! اپنی بیٹھنے کی جگہوں پر واپس آ جاؤ۔ یہ اس شخص سے کہا جاتا ہے جو کسی ایسی چیز سے گریز کرتا ہو جس میں اس کی بھلائی ہو اور اس کے لئے ناگزیر ہو۔

❁ أَتَى عَلَيْهِم ذو أتى: یہ بنوطی کا محاورہ ہے۔ ان کے ہاں ذو، الذی کے معنی میں مستعمل ہے۔ ضرب المثل کا معنی ہے: ان پر بھی وہی زمانہ اور موت کے حادثے آئے جو لوگوں پر آیا کرتے ہیں۔

❁ أتاكَ ريَّانَ بِلَبَنِهِ: وہ دودھ تیرے پاس اس وقت لایا جب خوب سیر ہو کر پی چکا تھا۔ یہ ضرب المثل اس شخص کے متعلق ہے جو کوئی چیز سخاوت کی بنا پر نہ دے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہونے پر کسی کو دے دے۔

❁ أَتَتْكَ بخائنٍ رِجلاهُ: خائن کو خود اس کے پاؤں تمہارے پاس لے آئے۔ یہ ضرب المثال اس بارے میں ہے کہ برائی برائی کرنے والے پر لوٹتی ہے۔ أتتك بحائنٍ رِجلاه بھی کہا جاتا ہے۔ حائن اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس کا مصداق وہ شخص ہے جس کا برا عمل ہی اس کے گلے کا پھندا بن جائے۔

❁ أتتكُم فالِيةُ الأفاعِي۔ فالية: سیاہ و سفید دھبوں والے گبریلے جیسے کیڑے جو بچھوؤں اور سانپوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ جب بل میں نظر آئیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پیچھے بچھو اور سانپ ہیں۔ یہ ضرب المثال برائی کی ابتداء کے متعلق ہے جس کے بعد بڑی برائی متوقع ہو۔ معنی ہے تمہارے پاس سانپوں کا پیش خیمہ آ گیا۔

❁ یاتیكَ كلُّ غد بما فيه: آنے والی ہر کل تیرے پاس وہ لائے گی جو اس میں ہوگا۔ یعنی ہونے والی بھلائی یا برائی ساتھ لائے گی۔

❁ یاتیك بالأخبار مَنْ لَم تُزَوِّد: تجھے وہ شخص خبریں لا کر دے گا جس کو تو نے سفر خرچ نہیں دیا۔ یہ ضرب المثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی کو خبریں دریافت کرنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ خبریں خود بخود مل جائیں۔ یہ طرفہ کا قول ہے۔ پورا شعر یوں ہے:

ستبدی لك الأيّامُ ما كنت جاهِلاً
ویاتیك بالاخبار من لم تُزَوِّدِ

(زمانہ جن باتوں سے تو بے خبر ہے تجھے بتا دے گا۔ اور تیرے پاس خبریں بھی وہ شخص لائے گا جسے تو نے سفر خرچ نہیں دیا ہوگا۔

❁ لا آتِيكَ حتى يَؤُوبَ القارظَان: میں قارظوں کے واپس آنے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ قارظ سَلَم نامی درخت کے پتے توڑنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ یمن کی سوغات ہے۔ اور ان پتوں سے چمڑا رنگنے کا کام لیا جاتا ہے کہتے ہیں یہ قبلہ عنزہ کے دو شخص یہ پتے توڑا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ گئے تو واپس نہ آئے۔

❁ لا آتيك سِنَّ الحِسْلِ: میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ حِسل (گوہ) کے دانت گرتے ہی نہیں۔

❁ كُلُّ آتٍ قريب: ہر آنے والا قریب ہے (جو آئے لحہ بلحہ قریب ہوتا جاتا ہے)۔

❁ ذاكَ أحَدُ الأحَدِيْن: وہ بے نظیر ہے۔

❁ أخذَه بِرُمَّتِهِ: اس نے اس کو کلی طور پر لے لیا۔ رُمَّة: پرانی رسی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو ایک اونٹ گلے میں رسی سمیت دیا تو ہر اس شخص کو جس نے کوئی چیز پوری پوری دی یا لی: دَفَعَهُ اليه بِرُمَّتِه و اخذه منه بِرُمَّتِه کہا جانے لگا۔

❁ قد يُؤخذ الجارُ بِذَنْبِ الجار: کبھی پڑوسی پڑوسی کے گناہ میں پکڑا جاتا ہے۔

❁ خُذْ من الرَّضْفَةِ ماعليها: رَضْف ان گرم پتھروں کو کہا جاتا ہے جن سے دودھ گرم کیا جاتا تھا اس کا واحد رَضْفَة ہے۔ جب یہ پتھر دودھ میں ڈالا جائے تو کچھ دودھ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ یہ ضرب المثل کنجوس سے ملنے والی چیز کو غنیمت سمجھنے کے بارے میں ہے خواہ کتنی کم اور تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ مثل کا معنی ہے: پتھر پر جو کچھ لگا ہو اس کو ہی لے لو۔ ہمارے ہاں محاورہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی، اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔

❁ خُذِ الأمرَ بقَوابِلِهِ: معاملہ کو اس کے مقدمات سمیت لو۔ یعنی معاملہ کے پیش آنے سے پہلے ہی اس کے لئے تیار ہو جاؤ اور وقت نکل جانے سے پہلے اس کے لئے تدابیر اختیار کرو۔ :بقوابله میں ب فی کے معنی میں ہے یعنی مراد ہے: فیما یستقبلك منه یعنی جو معاملہ آپ کو پیش آئے اس کے بارے میں۔

❁ خُذْ من الدهرِ ما صفا و من العيشِ ما كَفَى: زمانہ سے صاف صاف چیزیں لو اور اتنی روزی جو کافی ہو۔

❁ خُذْ ما طَفَّ لك: جو چیز قریب ہو لے لو۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ لاتؤخّرعملَ اليومِ لغدٍ: آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔

❁ آخرُ الداء الكيّ: مرض کی انتہاء داغ دینا ہے یہ ضرب المثل مرض کے انتہائی حد تک پہنچنے سے متعلق ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ مریض کا ہر قسم کی دواء سے علاج کیا جاتا ہے اور موافق نہ آئے تو آخری علاج کے طور پر داغ دیا جاتا ہے۔ تو پھر کوئی علاج باقی نہیں رہتا سوائے موت کے۔

❁ آخِ الأكفاءَ و داهنِ الاعداءَ: اپنے جیسوں کو دوست بناؤ اور دشمنوں کو فریب دو۔

❁ أخوك أم الذئبُ؟: اس کا معنی ہے کیا تمہارا بھائی وہ ہے جو تمہاری ہمدردی کے لئے آئے یا بھیڑیا جو تمہیں ایذا دینے کے لئے آئے۔ نیز أصاحبٌ أنت فاركن اليك ام عدو فاحذر منك: آیا تو دوست ہے کہ تیری طرف مائل ہوں یا دشمن کہ تجھ سے بچوں۔ مثل کا مفہوم ہے: کیا آنے والا تمہارا بھائی ہے یا بھیڑیا؟

❁ أخوك مَن صَدَقَكَ: تیرا بھائی وہ ہے جو تجھ سے سچ بولے یعنی بے لوث محبت اور نصیحت کرے۔

❁ أخُوكَ مَنْ وَاسَاكَ بنَشَبٍ لامَنْ واساك بنَسَبٍ: تیرا بھائی وہ ہے جو مال سے تیری مدد کرے نہ کہ وہ جو محض قرابت جتائے۔

❁ إنَّ أخا الهيجاءِ مَنْ يسعى معك: جنگجو وہ ہے جو تمہارے ساتھ کام کرے۔

❁ إنَّ أخاكَ مَنْ آساكَ: تیرا بھائی وہ ہے جو تیری اعانت کرے۔ آسيتُ فلانا بمالي او غيره آپ اس وقت کہتے ہیں جب آپ نے اسے مال وغیرہ میں اپنا نمونہ بنایا ہوا اور اسے اپنے برابر کر لیا ہو۔ اس مثل کا معنی یہ ہے: تیرا بھائی حقیقت میں وہ ہے جو تجھے آگے کرے اور اپنے آپ پر تجھے ترجیح دے۔ یہ مثل بھائیوں کا پاس ولحاظ کرنے پر اکسانے کے لئے ہے۔

❁ لِأَخِيكَ عَلَيْكَ مِثلُ الذّى لَكَ عَلَيْهِ: تیرے بھائی کا تجھ پر اتنا ہی حق ہے جو تیرا اس پر ہے۔

❁ رُبَّ أخٍ لم تلِدْهُ وَالِدَة: بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ماں جائے نہیں ہوتے۔ مراد سچا دوست وہ ہے جو بعض اوقات حقیقی بھائی سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے۔

❁ أدَبُ المرءِ خيرٌ مِن ذَهَبِهِ: آدمی کا ادب اس کے سونے سے بہتر ہے۔

❁ الأدَبُ مالٌ وإستِعمَالُهُ كمَال: ادب ایک دولت ہے اور اس کا استعمال کمال ہے۔

❁ نِعْمَ المؤدِّبُ الدهرُ: زمانہ اچھا ادب سکھانے والا ہے۔

❁ مَآربةٌ لاحفاوة: وہ تیرا اکرام واحترام اپنی کسی غرض کے لئے کرتا ہے تیرے ساتھ محبت کی وجہ سے نہیں۔

❁ الأرضُ الواطِئةُ تشربُ ماءَ ها وماءَ غيرِها: پامال اور نرم زمین اپنا پانی بھی پیتی ہے اور دوسرے کا بھی۔

❁ بالارض وكدتك أمُّك: تیری ماں نے تجھے زمین پر ہی جنا تھا۔ (غرور اور تکبر سے روکنے اور اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی ترغیب کے لئے کہا جاتا ہے۔)

❁ لِلأرضِ مِن كأسِ الكرام نصيبُ: سخی لوگوں کے پیالے میں زمین کا حصہ ہے۔

❁ وفي الأرض للحرّ الكريم مَنَادحُ: زمین میں آزاد اور شریف آدمی کے لئے بہت گنجائش اور روزگار کے بڑے مواقع ہیں۔

❁ لااصلَ له ولافصْلَ: اصل حسب ونسب اور فصل زبان اور گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ مفہوم ہے: وہ نہ تو خاندانی شرافت رکھتا ہے اور نہ ہی حسن گفتار والا ہے۔

❁ الاصيلُ يجودُ: جو شریف خاندان سے ہوا پنا مال خرچ کرتا اور جان تک دے دیتا ہے۔ یہ عبداللہ بن الزبیرؓ کا قول ہے۔

❁ الاصيلُ يعملُ بأصلِهِ: شریف شخص اپنی شرافت کے مطابق عمل کرتا ہے۔

❁ آفةُ العِلمِ النِسيانُ: بھولنا علم کی مصیبت ہے۔

❁ أكَلَ عَلَيْهِ الدهرُ وشَرِبَ: ایک زمانہ نے اس پر کھایا اور پیا ہے۔ لمبی عمر پانے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس نے زمانہ دراز تک کھایا اور پیا ہے۔

❁ أكَلتُم تَمرِي وَعَصَيتُم أمرِي: تم نے میری کھجوریں کھا کر میری نافرمانی کی۔ یعنی تم نمک حرام ہو۔

❁ آكلُ لَحمِي ولا أدعه لآكِلٍ: میں اپنا گوشت کھاؤں گا اسے کسی دوسرے کے لئے نہیں چھوڑوں گا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خود کو اور رشتہ داروں کو خود ہی تکلیف دے کسی غیر کو ایسا نہ کرنے دے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اجنبی کے مقابلہ میں رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہئے خواہ رشتہ داروں اور تمہارے درمیان دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔

❁ يأكُلُ التمرَ وأرْجَمُ بالنَوى: کھجوریں وہ کھا رہا ہے اور گٹھلیاں مجھے ماری جا رہی ہیں۔ یہ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو خود تو نفع اٹھائے اور پریشانیاں دوسروں کے لئے چھوڑ دے۔

❁ يأكلُني سبعٌ ولا يأكلُني كلبٌ: مجھے ایک درندہ کھا رہا ہے، کتا نہیں۔

❁ ياكله بِضِرسٍ ويَطَأهُ بِظِلْفٍ: وہ ڈاڑھ سے اسے کھاتا اور سم سے کچلتا ہے۔ احسان فراموش کے لئے بولا جاتا ہے۔

❁ يأكلُ بالضِرسِ الذى لم يُخلَق: وہ اس ڈاڑھ سے کھاتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ ضرب المثل اس شخص کے بارے میں ہے جو بغیر احسان کے تعریف کروانا چاہے۔

❁ غيري يأكلُ الدجاجَ وانا أقع في السياج: دوسرے لوگ مرغیاں کھائیں اور میں جھاڑی میں پڑوں۔

❁ أكلٌ وحَمدٌ خيرٌ من أكلٍ وصمت: کھانا اور تعریف کرنا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کھانے اور خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ احسان کرنے والے کی تعریف کرنے پر اکسانے کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ أَكْلاً وَ ذَمًّا: کھانا بھی اور مذمت بھی کرنا۔ اس شخص کے متعلق ہے جو کسی چیز سے فائدہ اٹھا کر اس کی مذمت کرے اور وہ چیز قابل مذمت بھی نہ ہو۔

❁ رُبَّ أَكْلَةٍ تمنعُ أَكَلاتٍ: کبھی ایک لقمہ بہت سے لقموں کو روک دیتا ہے۔ کیونکہ ایک لقمہ بیمار کر دے تو انسان دوسرے لقموں سے بچتا ہے۔ پرہیز پر آمادہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ آكَلُ من حوت: مچھلی سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ آكَلُ من الرَّحى: چکی سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ آكَلُ من السوس: گھن سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ آكَلُ من ضرسٍ: ڈاڑھ سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ آكَلُ من النار: آگ سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ حتى يُؤَلَّفَ بَيْنَ الضبّ و النون: یہاں تک کہ گوہ اور مچھلی جمع ہو جائیں۔ نون مچھلی کے معنی میں ہے۔ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حَتَّى يَرِدَ الضبُّ یہاں تک کہ گوہ پانی تک پہنچے۔

❁ آلَفُ مِن حَمامِ مكّةَ: مکہ کے کبوتر سے بھی زیادہ مانوس، (کیونکہ وہاں کبوتروں کو نہ تو کوئی چھیڑتا ہے نہ اس کا شکار کرتا ہے)

❁ آلَفُ مِن الحُمَّى: بخار سے بھی زیادہ مانوس۔ (کیونکہ بخار طویل ہو جائے تو مریض پرہیز اور علاج کرتا ہے لیکن جب اسے گمان ہو جائے کہ بخار اتر گیا ہے تو وہ پھر اس کے پاس لوٹ آتا ہے)

❁ آلَفُ مِن كَلْبٍ: کتے سے زیادہ مانوس۔ (کیونکہ گھر والا جب سفر جانے لگے تو اس کے پیچھے نہ گھوڑا جاتا ہے۔ نہ خچر، نہ مرغ اور نہ کوئی انسانوں سے مل جل کر رہنے والی چیز، صرف کتا جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے وطن اور جائے پیدائش کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

❁ أُمٌّ فَرَشَتْ فأنامَتْ: ماں جس نے بچھونا بچھایا اور سلا دیا۔ (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے بھائی بندوں سے بہت حسن سلوک اور شفقت سے پیش آئے جیسے وہ ماں ہو کہ اس نے اپنے بچے کے لئے بستر بچھایا اور وہ بچہ اس پر لیٹ کر سکون سے سو گیا۔

❁ أُمُّ الأخرسِ تعرفُ بلغاتِ الخُرْسانِ: گونگے کی ماں گونگوں کی زبانیں بڑی اچھی طرح جانتی ہے۔

❁ أُمٌّ سَقَتْكَ الْغَيْلَ مِن غيرِ حَبَلٍ: وہ ایسی ماں ہے جس نے تجھے حاملہ ہونے تک دودھ پلایا تھا۔ (غیل وہ دودھ جو بچہ حاملہ ماں کا پیتا ہے، یہ دودھ بچہ کے لئے مضر ہوتا ہے۔ یہ مثل اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو پہلے تو تجھے اپنا مقرب بنائے پھر پیچ دے اور بغیر کسی قصور نکال دے۔

❁ إلى أُمِّهِ يَلْهَفُ اللَّهْفانُ: فریاد کرنے والا اپنے کے پاس ہی فریاد کرتا ہے۔ (یہ آدمی کی اپنے اہل اور بھائیوں سے مدد مانگنے کے [illegible] ہے۔ لفهان افسوس کرنے والے اور سخت رنجیدہ کو کہتے ہیں۔)

❁ الامرُ يَعْرِضُ دُونَهُ الامرُ: معاملہ سے پہلے معاملہ پیش آجاتا ہے۔ (یہ قول مشکلات اور رکاوٹیں پیش آنے کے بارے میں ہے۔

❁ أَمْرَ مُبْكِياتِكَ لا أَمْرَ مُضْحِكاتِكَ: رلانے والی باتوں کا دھیان کرو، نہ کہ ہنسانے والی باتوں کا (اس شخص کی بات پر عمل کرو جو تمہاری برائیوں کے بدانجام سے ڈرائے تاکہ تم اس سے چوکنا رہ کر نجات پاؤ اور اس شخص کی بات پر عمل نہ کرو جو تمہیں مصیبت میں پھنسانے کے لئے خطرات سے بے خوف کر دے۔)

❁ لِأمرٍ ما جَدَعَ قَصِيرٌ أنفَهُ: کسی مقصد کے لئے ہی قصیر نے اپنی ناک کاٹی۔ (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جس نے کوئی مطلب نکالنے کے لئے کوئی چال چلی ہو۔ یہ بات زباء نے اس وقت کہی جب اس نے دیکھا کہ قصیر کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ زباء کا باپ ریان غسانی حضر کا بادشاہ تھا۔ جذیمہ ابرش نے اسے قتل کر دیا اور زباء کو شام کی طرف نکال دیا۔ زباء رومیوں سے جا ملی۔ اور انتہائی حوصلہ وہمت سے کام لے کر مردوں کو اکٹھا کیا، دولت خرچ کی اور اپنے والد کے گھر اور مملکت میں واپس آکر جذیمہ کو وہاں سے ہٹا کر قتل کر دیا۔ جذیمہ کا ایک وزیر قصیر نامی تھا جس نے زباء کو قتل کرنے کے لئے ایک حیلہ سے کام لیا۔ اس نے اپنی ناک کاٹی، اپنے جسم پر چوٹیں لگائیں اور دعویٰ کیا کہ جذیمہ کے بھانجے عمرو نے اس کی یہ درگت بنائی ہے، اور وہ فرار ہو کر اس کے پاس پناہ لینے آیا ہے اور اس کی پناہ حاصل کی۔ اور تجارت اور دولت کمانے کے ذریعے زباء کا اعتماد حاصل کیا اور اس کے محل کے خفیہ مقامات کا پتہ چلایا۔ پھر عمرو کے مسلح لوگوں کو بوریوں میں چھپا کر اور اونٹوں پر لاد کر تجارتی قافلہ کی صورت میں زباء کے شہر میں پہنچا۔ وہاں بوریاں کھول ڈالیں اور زباء کے محل کا محاصرہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح زباء کو قصیر کی چال معلوم ہوئی اور اس نے یہ بات کہی، جو ضرب المثل بن گئی۔

❁ لِأمرٍ ما يَسُودُ مَن يَسُودُ: جو سردار بنتا ہے کسی وجہ سے ہی بنتا ہے۔ (یعنی کوئی شخص استحقاق کی بناء پر قوم کا سردار بنا کرتا ہے۔)

❁ لَيْسَ لِلأُمُورِ بصاحبٍ من لم ينظر في العواقب: جو شخص انجام پر نظر نہ رکھے وہ معاملات پر کنٹرول کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔

❁ الأميرُ مَنْ لا يعرفُ الأميرَ: امیر وہ ہے جو کسی دوسرے امیر کو نہ جانے۔

❁ باحَبَّذا الإمارةُ ولو على الحجارة: حکومت بڑی اچھی چیز ہے چاہے پتھروں پر ہی ہو۔

❁ تأمُّلُ العَيْبِ عَيْبٌ: برائی ڈھونڈنا بھی برائی ہی ہے۔

❁ مَنْ أَمِنَ الزمانَ خانَهُ: جو بھی زمانہ سے محفوظ ہوا زمانہ نے اس سے خیانت کی۔

❁ آمَنُ مِن حَمامِ مكّةَ: مکہ کے کبوتروں سے زیادہ محفوظ و مامون [illegible] امن کا مصدر امن ہے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

- آمَنُ مِنَ الأرض: زمین سے زیادہ امین۔ آمن کا مصدر امانۃ ہے۔ زمین میں جو مختلف جنسوں کے دانے ڈالے جاتے ہیں وہ ادا کر دیتی ہے۔
- المُؤمِنُ بِشرُهُ في وجهه و حزنُهُ في قلبه: مومن کی خندہ پیشانی اس کے چہرہ پر ظاہر اور اس کا غم دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔
- الإِينَاسُ قبلَ الإِبساس: مانوس کرنا دوہنے سے پہلے ہونا چاہیے (ایناس کسی کو مانوس بنانے کے معنی میں ہے۔ ابساس دوہتے وقت اونٹنی سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے معنی میں ہے۔ اس وقت اونٹنی کو بس بس کہا جاتا ہے اور اونٹنی کو بسوس کہا جاتا ہے۔ یہ مقولہ طلب کے وقت مدارات (نرمی) سے کام لینے کے متعلق ہے۔
- لَيسَ عَلَى الإِنسانِ الّا ما مَلَكَ: انسان کو صرف اس چیز پر اختیار ہے جو اس کی ملکیت ہو۔
- الانسانُ عبدُ الإحسان: انسان احسان کا غلام ہے۔
- الانسانُ اِبْنُ يومِهِ: انسان اپنے دن کا بیٹا ہے۔
- الانسانُ بالتفكير و اللّٰهُ بِالتَّدبير: انسان غور و فکر کرتا ہے اور خدا تعالیٰ تدبیر کرتا ہے۔
- كُلُّ إنسانٍ وهَمُّهُ: ہر انسان کا اپنا غم ہے۔
- أنفٌ في السماءِ و أستٌ في الماء: ناک آسمان میں اور چوتڑ پانی میں۔ (یہ کم کام کرنے اور بڑے بول بولنے والے کے لئے ہے۔ نیز کم رتبہ متکبر کے لئے بھی کہا جاتا ہے۔
- أنفُكَ مِنكَ وإنْ كانَ أَذَنَّ: تیری ناک تیری ہے چاہے اس سے ریزش بہتی ہو۔ (کہا جاتا ہے ذَنَّ الرجُلُ يَذِنُّ ذَنِينًا فهو اذن یہ مثل اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنی قوم کے ضعفاء سے بیزار ہو)
- مِنكَ أنفُكَ وإنْ كانَ أَجْدَعَ: تیری ناک تیری ہی ہے چاہے کٹی ہوئی ہو۔ (اس شخص کے بارے میں ہے جس کی بھلائی یا برائی سے مفر نہ ہو، اگرچہ وہ زیادہ قریب نہ ہو)
- الأنامُ فرائِسُ الأيّامِ: لوگ زمانہ کا شکار ہیں۔ (زمانہ آخرکار سب کو ختم کر دیتا ہے)
- مَنْ تَأَنّى أدرَكَ ماتَمَنّى: جس نے غور و فکر کیا بامراد ہوا۔
- وكلُّ أناءٍ بالذي فيه يرشح: ہر برتن سے وہی کچھ ٹپکتا ہے جو اس میں ہو۔ (ینضح بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال مفہوم یہی ہے)
- عَلَى أَهْلِها تجني بَرَاقِشُ: براقش اپنے اہل پر ہی مصیبت لاتی ہے (براقش ایک عرب قبیلہ کی کتیا تھی۔ ایک دفعہ ان پر اچانک حملہ ہوا تو یہ لوگ بھاگ نکلے کتیا براقش ان کے ساتھ تھی۔ حملہ آوروں نے براقش کے بھونکنے سے تعاقب کیا۔ چنانچہ ان پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہ مثل اس شخص کے بارے میں ہے جو ایسا کام کرے جو اس کے اور اس کے اہل خانہ کے لئے مضر ہو۔
- آفةُ المروءةِ خُلفُ الوعد: شرافت کی مصیبت وعدہ خلافی ہے۔
- آفةُ الجود الإسراف: سخاوت کی مصیبت فضول خرچی ہے۔
- آفةُ الحديثِ الكَذِبُ: گفتگو کی مصیبت جھوٹ ہے۔
- آفةُ العلمِ النسيانُ: علم کی مصیبت بھول ہے۔ (نسب کے عالم طبری کا قول ہے: علم کی مصیبت، قلت عطا، کمینگی اور سیر نہ ہونا ہے۔ چنانچہ علم کی آفت بھول، عطا کی قلت اس پر جھوٹ، کمینگی اس کی نااہل لوگوں میں اشاعت، عدم سیری اس سے سیر نہ ہونا ہے۔
- اوّلُ الغضبِ جنونٌ و آخِرُهُ ندم: غصہ کی ابتداء جنون اور انتہا ندامت ہے۔
- اوّل الغيث قطر: بارش کی ابتداء بوند ہے۔
- اوّل الشجرة النواة: درخت کی ابتداء گٹھلی ہے۔ یہ مثال ایسی چھوٹے کام کے لئے ہے جس سے بڑا نتیجہ نکلے۔
- لَسْتَ بأوّلِ مَنْ غَرَّهُ السَّرابُ: تو اکیلا وہ پہلا شخص نہیں ہے، جس کو سراب نے دھوکا دیا۔ (اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص نے سراب دیکھ کر اسے پانی سمجھا، لہٰذا پانی ساتھ نہ لیا۔ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہ مثل بنی۔
- ایوان کسری: یہ محل اپنی انتہائی مضبوط، محفوظ، بلند اور عجیب الصفات عمارت کے لئے ضرب المثل تھا۔ دنیا کی عجیب عمارات میں شمار ہوتا تھا۔ اور بادشاہوں کی بہترین یادگاروں میں سے ایک، جسے مدائن میں بغداد سے ایک منزل کے فاصلہ پر کسری پرویز نے کوئی بیس سال سے زائد مدت میں تعمیر کروایا تھا۔

ب

- البئرُ أبقى من الرشاء: کنواں ڈول کی رسی سے زیادہ پائیدار ہے۔ (الرشا ڈول کی رسی کو کہا جاتا ہے)
- كَالباحِثِ عَنْ حَتفِهِ بِظِلْفِهِ: اپنے کھر سے اپنی موت کا سامان کرنے والے کی طرح (جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے "اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا")
- كَالباحِثِ عَنِ المُدْيَةِ: چھری تلاش کرنے والے کی طرح (کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو ایک شکار ملا۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ شکار کو ذبح کرتا۔ شکار نے اپنے کھروں سے زمین کھودی تو ایک دبی ہوئی چھری نکلی۔ شکاری نے وہ چھری لے کر شکار کو ذبح کر دیا۔ یہ ضرب المثل ایسی چیز کے متعلق ہے جو تلاش کرنے والے کے لئے موجب ہلاکت ہو۔
- أبْخَرُ من أسَدٍ: شیر سے زیادہ منہ کی بدبو والا۔
- ابخر من صقر: شکرہ سے زیادہ منہ کی بدبو والا۔
- ابخر من فَهْد: چیتے سے زیادہ منہ کی بدبو والا۔
- ابخلُ من مادِرٍ: مادر سے زیادہ بخیل۔ مادر بنی ہلال سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا، جس سے حوض کے نیچے بہت تھوڑا پانی بچا۔ اس نے وہاں پاخانہ کیا اور اس

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سے حوض کو لیپ ڈالا تا کہ اس کے بعد کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسی وجہ سے اس کا نام مادر (لیپنے والا) پڑ گیا۔

❁ هـذه بتـلك و البادِئُ أظلم: یہ اس کا بدلہ ہے اور ابتداء کرنے والا ظالم تر ہے۔ (بدی کرنے والے کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کی ابتداء کرنے والا زیادہ ظالم بھی کہلاتا ہے۔

❁ أَبْـدَى الصريحُ عَنِ الرَّغْوَة: صاف اور خالص حصہ جھاگ سے جدا ہوگیا۔ (ایسے معاملہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو پوشیدہ رہنے کے بعد سامنے آئے)

❁ كُلُّ مَبْذُولٍ مَمْلُول: جب انسان کو کسی چیز سے روکا جائے تو وہ اس کا اور خواہاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا الٹ۔

❁ بـالْبِـرّ يُسْتَعْبَدُ الحُرُّ: احسان سے شریف انسان کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔

❁ بَـرِئَـتْ قَائِبَةٌ من قُوب: قائبۃ کا معنی انڈہ ہے اور قوب کا معنی چوزہ ہے۔ اس کہاوت کا مفہوم یہ ہے: انڈہ چوزے سے بے تعلق ہوگیا۔ یعنی چوزہ کے انڈہ سے جدا ہونے کے بعد میں اور انڈہ چوزے کے کاموں کے ذمہ دار نہیں رہے۔

❁ بَـرْدُ غَدَاةٍ غرَّ عبدًا من ظَما: صبح کی ٹھنڈک نے آدمی کو پیاس کے بارے میں فریب دیا۔ (معاملات میں ترک احتیاط کے لئے ضرب المثل ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص ٹھنڈی صبح میں جانور لے کر جنگل میں گیا اور پانی ساتھ نہ لیا اور پیاس سے ہلاک ہوگیا۔

❁ ابْـرَدُ مِن غِبِّ المطر: بارش کے اگلے دن سے بھی زیادہ سرد۔ (یہ ابرد من غب یوم المطر ہے)

❁ ابْرَدُ مِن عَضْرَس: برف سے زیادہ سرد۔ (عضرس اولے اور برف کو کہتے ہیں)

❁ ابْـرَدُ مـن فَلْحَـس: فلحس سے زیادہ حق جتانے والا۔ (فلحس بنی شیبان کا ایک سردار تھا جو گھر بیٹھے لشکر کے لائے ہوئے مال غنیمت میں حصہ طلب کرتا، یہ حصہ دیا جاتا تو اپنی بیوی کا حصہ مانگتا، جب بیوی کا حصہ بھی دیا جاتا تو اپنے اونٹ کا بھی حصہ طلب کرتا، اس سے یہ ضرب المثل چل پڑی)

❁ بَرَضٌ من عِدّ: بڑے ذخیرہ میں سے تھوڑا سا۔ (برض تھوڑی چیز کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ماء برض تھوڑا پانی۔ عدوہ پانی کہلاتا ہے جو ہمیشہ جاری رہے۔ ڈھیری میں سے مٹھی بھر دینے والے کے لئے بولا جاتا ہے۔

❁ إنـمـا هـو كَبَرْقِ الخُلَّب: وہ تو دھوکا دینے والی بجلی کی طرح ہے۔ (بـرق خُـلَّـبٌ وبرقُ خُلَّب اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکے مگر بارش نہ ہو یوں گویا بجلی دھو کے باز ہوئی۔ خلب اس بادل کو بھی کہتے ہیں جو برسے نہ۔ یوں بـرق الخـلـب۔ بـرق السحاب الخلب کے معنی میں ہے۔ اس کے لئے بولا جاتا ہے جو وعدہ کرے مگر وعدہ خلافی کرے اور وفا نہ کرے)

❁ عَسَى البارقةُ لا تُخْلِف: امید ہے کہ بجلی والا بادل وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ (امید کو نیکی سے وابستہ کرنے والے کے بارے میں بولا جاتا ہے)۔

❁ ما كُلُّ بارقة تجود بماء ها: ہر بجلی والا بادل پانی نہیں برساتا۔

❁ الَّـذِی لایُبْـصـر من الغِربال يكون أعْمَى: جو شخص چھلنی سے بھی نہ دیکھ سکے اندھا ہوتا ہے۔

❁ أَبْـصِر وَسْمَ قِدْحِكَ: اپنے تیر کی علامت دیکھ لو۔ قدح وہ تیر جس سے جوئے کی رقم تقسیم کی جاتی ہے۔ وسمُ القدْح: تیر پر بنائی جانی والی علامت۔ کہا گیا ہے کہ دیکھو تا کہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں کیا دینا یا لینا ہوگا۔

❁ أَبْصَرُ مِن عُقاب: عقاب سے بھی زیادہ تیز نگاہ۔

❁ أَبْصَرُ مِن نِسر: گدھ سے بھی زیدہ تیز نظر۔

❁ أَبْصَرُ من الوَاطْوَاط فی اللیل: رات کو چمگادر سے بھی تیز نظر۔

❁ أَبْـصَـرُ مِـنْ زَرْقـاء اليـمامة: یمامہ کی زرقاء سے بھی زیادہ تیز نظر (زرقاء جدیس قبیلہ کی ایک عورت کا نام ہے۔ وہ اتنی تیز نگاہ تھی کہ تین منزل کے فاصلہ سے دیکھ لیتی تھی۔

❁ لایَبِـضُّ حَجَـرُهُ: بض الحجر کا معنی ہے پتھر سے عرق جیسی نمی کا بہنا۔ کنجوس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ (ہمارے ہاں کہا جاتا ہے: ''پتھر میں جونک نہیں لگتی'' یا ان تلوں میں تیل نہیں)

❁ ابْـطَـأُ مِـن غُـراب نُـوح: نوحؑ کے کوے سے بھی زیادہ دیر لگانے والا۔ (غراب نوح سے مراد وہ کوا ہے جسے نوحؑ نے اس لئے بھیجا تھا کہ دیکھے آیا پانی زمین سے ختم ہوگیا ہے یا نہیں اور اس کی خبر دے مگر وہ واپس ہی نہیں آیا)

❁ أَبْـطَـشُ مِن دَوْسَر: دَوْسَر سے زیادہ سخت گیر۔ (دوسر عرب بادشاہ نعمان بن منذر کا ایک فوجی دستہ، جو دیگر تمام دستوں سے درشت اور گرفت کی سختی میں بڑھ کر تھا۔ دسر سے مشتق ہے جس کا معنی نیزہ مارنا ہے)

❁ بَـطْنِي عَطِّرِي وسَائِرِي ذَرِي: میرے پیٹ پر عطر ملو۔ بدن کا باقی حصہ چھوڑ دو۔ (یہ بات ایک بھوکے شخص نے کہی تھی جو ایک قوم کا مہمان ہوا۔ انہوں نے لونڈی سے اسے عطر ملنے کو کہا۔ ایسے شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جو اہم چیز کی دیکھ بھال کو نظر انداز کرے۔

❁ البِطْنَةُ تـأْفِنُ الفِطْنَة: زیادہ کھانا ذہانت کو ختم کر دیتا ہے۔ (افن الفَصَيل، کا معنی ہے اونٹنی کے بچے کا اپنی ماں کے تھن کا سارا دودھ پی لینا۔ یہ مثل اس شخص کے بارے میں ہے جو مالدار ہوا اور اس کی دولت سے اس کی عقل خراب ہو جائے۔)

❁ مَـا أَبْـعَدَ مَافَاتَ ومَا أَقْرَبَ مَايَاتِي: جو نکل گیا وہ بہت دور ہوگیا اور جو آنے والا ہے وہ بہت قریب ہوگیا۔

❁ أَبْعَدُ من النجم: ستارے سے بھی زیادہ دور۔ یہاں نجم سے مراد

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ثریا ہے جو ستاروں کے ایک جھمکے کا نام ہے)

❁ أَبْعَدُ مِن بيضِ الأَنوق: عقاب کے انڈوں سے بھی زیادہ دور (انوق کا معنی عقاب ہے جس کا گھونسلہ سب پرندوں کی نسبت دور ترین ہوتا ہے۔ یہ مثل چیز کی دوری اور نا قابل حصول ہونے کے بارے میں ہے)

❁ أَبْعَدُ من مناطِ الثريّاء: ثریا کے لٹکن سے زیادہ دور (مناط کا معنی وہ چیز ہے جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے یا کسی دوسری چیز کو اس سے باندھا جائے)

❁ أَبْعَدُ مِنْ مناطِ العَيُّوق: عیوق کے لٹکن سے بھی زیادہ دور۔ (عیوق: ثریا کے ساتھ طلوع ہونے والا ستارہ)

❁ البُعْدُ جفاء: دوری ستم ہے۔

❁ رُبَّ بَعيدٍ أنفعُ من قريب: بہت سے دور والے پاس والوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔

❁ اِنَّ البُغاثَ بأرضِنا يَسْتَنْسِر: ہماری زمین میں بغاث بھی کرگس ہو جاتا ہے۔ (بغاث ایک کمزور پرندہ ہے۔ استنسر کا معنی طاقت میں کرگس جیسا ہو جانا ہے۔ ایسے معزز شخص کے لئے کہا جاتا ہے، جس کے پاس ذلیل معزز یا کمزور طاقتور ہو جائے۔

❁ إنْ يَبْغِ عَلَيك قومُك لا يَبْغِ عليك القمرُ: اگر تیری قوم تجھ پر ظلم کرے تو چاند ایسا نہیں کرے گا۔ (جاہلیت میں کچھ لوگوں نے چودھویں رات کو سورج اور قمر پر شرط لگائی۔ کچھ نے کہا کہ سورج طلوع ہوگا تو چاند بھی نظر آرہا ہوگا۔ دوسروں نے کہا نہیں بلکہ چاند سورج نکلنے سے پہلے غروب ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک شخص کو ثالث بنایا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا میری قوم مجھ پر ظلم کرتی ہے۔ تو ثالث نے یہ بات کہی جو ضرب المثل بن گئی۔ بغی ظلم کو کہتے ہیں۔ اس مثل میں کہا گیا ہے کہ اگر تیری قوم تجھ پر ظلم کرے تو چاند تجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ لہٰذا صبح کا انتظار کر لے معاملہ اور حق واضح ہو جائے گا۔ یہ ضرب المثل مشہور بات کے لئے ہے)

❁ مِن اِبْتِغاءِ الخيرِ اِتّقاءُ الشرّ: برائی سے بچنا دراصل بھلائی تلاش کرنا ہے۔

❁ على الباغي تَدُورُ الدوائرُ: ظالم کے سر پر ہی مصیبتیں گھومتی ہیں۔

❁ كَمُبْتَغِي الصيدِ في عِرّيسةِ الأسَد: شیر کی کچھار میں شکار تلاش کرنے والے کی طرح (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو غیر محل میں اپنی ضرورت طلب کرے یا جہاں وہ مغلوب ہو جائے یا جو محال چیز طلب کرے۔

❁ بَقْبَقَةٌ في زَقْزَقَة: ہنسی میں شور اور بک بک۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو شیخی بگھارے یا بے پر کی اڑائے۔

❁ بَقْلُ شَهْرٍ وشوكُ دَهْر: ساگ مہینہ بھر کا کانٹا ہمیشہ کا۔ (اس شخص کے لئے جو کم خیر اور بہت شر والا ہو کہا جاتا ہے۔

❁ ما إسْتَبْقاكَ مَنْ عَرَّضَكَ للأسد: جس نے تجھے شیر کے آگے ڈالا اس نے تجھے زندہ نہ رہنے دیا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو تجھے ایسی بات پر اکسائے جس کا انجام ناپسندیدہ ہو)

❁ لا يَبْقَى شيٌ عَلَى حالِه: کوئی چیز اپنی حالت پر برقرار نہیں رہتی۔

❁ بَقِّ نَعْلَيكَ وابْذُلْ قَدَمَيكَ: اپنے جوتے کو باقی رکھو اور پاؤں کام میں لاؤ۔ (یعنی جان لڑا دے اور مال بچا تا کہ معاملات خراب نہ ہوں)

❁ أَبْقَى مِن وَحْيٍ في حَجَرٍ: پتھر پر لکھی ہوئی حکمت سے بھی زیادہ پائیدار (یعنی عرب حکمت کی باتیں پتھروں پر لکھا کرتے تھے تا کہ پائیدار رہیں۔ لوگ کہتے ہیں العلم في الصغر كالنقش في الحجر: بچپن میں حاصل کیا ہوا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہے)

❁ أَبْقَى من العَصْرَيْن: صبح و شام سے بھی زیادہ پائیدار (عصرین صبح و شام کو کہتے ہیں)

❁ أَبْقَى من النَسْرَين: نسرین سے زیادہ پائیدار۔ (نسرین دو ستارے ہیں جن میں سے ایک النسر الطائر اور دوسرے کو النسر الواقع کہا جاتا ہے۔

❁ أَبْقَى من الدهر: زمانہ سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا۔

❁ أَبْقَى مِن حَجَر: پتھر سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا۔

❁ باكِرْ تَسْعَدْ: صبح اٹھا کر نیک بخت بن جائے گا۔

❁ أَبْكَرُ من غراب: کوے سے بھی زیادہ سویرے اٹھنے والا۔ (کوا سب پرندوں سے پہلے اٹھتا ہے)

❁ ماتَبُلُّ إحدى يديه الأُخرى: اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو تر نہیں کرتا۔ (بخیل شخص کے بارے میں ہے)

❁ بَلَغَ مِنْهُ المُخَنَّق: وہ انتہائی مشقت میں پھنس گیا (مخنق بمعنی حلق ہے۔ اگر پانی ڈوبنے والے کے حلق سے تجاوز کر جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے)

❁ بَلَغَ الحِزامُ الطُبْيَيْن: تنگ پستان تک پہنچ گیا۔ (طبی اطباء کا واحد ہے بمعنی تھن کا سرا۔ اس معاملہ کے لئے یہ ضرب المثل ہے جو انتہائی شدید اور مشکل ہو)

❁ بَلَغَ السيلُ الزُبَى: سیلاب ٹیلے تک پہنچ گیا۔ (زبی زبیۃ کی جمع ہے زبیۃ کا معنی ٹیلہ ہے۔ وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا اگر سیلاب ٹیلہ تک پہنچ جائے تو وہ سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ یہ مثل اس چیز کے بارے میں ہے جو حد سے متجاوز ہو جائے اور جب معاملہ سنگین صورت اختیار کر لے)

❁ بَلَغَ السِكّينُ العظمَ: چھری ہڈی تک پہنچ گئی۔ یہ بلغ السیل الزبی کے مفہوم میں ہے)

❁ بَلَغَتِ الدِماءُ الثُنَنَ: خون چوپایوں کے ٹخنوں تک پہنچ گیا (ثنن ثنۃ کی جمع ہے جس کا معنی جانور کے ٹخنے کے پچھلے حصہ کے بال ہیں۔ یہ برائی کی سنگینی کے وقت کہا جاتا ہے، جیسے ایسے موقع پر بلغ السیل

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

الزُبٰی کہاجاتا ہے۔

❁ لَو بلغَ الرزقُ فاه لَولاّهُ قفاهُ: اگر رزق اس کے منہ تک پہنچ جائے تو بھی وہ اس کی طرف پیٹھ کرلے گا۔ (محروم کے لئے بولا جاتا ہے)

❁ ما عَسَیٰ ان یَبْلُغَ عَضُّ النَمْل: امید نہیں کہ چیونٹی کا کاٹنا اپنی جگہ پہنچے۔ (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی دھمکیوں کی کوئی پروا نہ کرے)

❁ اَبْلَغُ مِن قُسّ: قُسّ سے زیادہ بلیغ (مراد قس بن ساعدہ سے ہے جو فصاحت وخطابت میں ضرب المثل تھا اور عرب کے داناؤں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسی نے سب سے پہلے امابعد کہا، اور وہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے کہا: البَیّنَة علی مَنْ اِدَّعَی والیمینُ علی مَنْ اَنکَرَ مدعی کے ذمے دلیل وحجت اور جو الزام سے انکار کرے اس کے ذمے قسم ہے)

❁ ابلہ مِن الحُبارَی: حُبارَی سے زیادہ بے وقوف (حباری ایک پرندہ ہے اور بے وقوفی اور کم سمجھی میں ضرب المثل ہے۔ اس کی مادہ جب اپنے انڈے چھوڑ کر جاتی ہے تو انہیں بھول جاتی ہے اور دوسروں کے انڈے سینے لگ جاتی ہے)

❁ اِنَّ البَلاءَ مُوَکَّلٌ بِالمَنْطِق: ہر بلا الفاظ کے صحیح استعمال کے لئے جوابدہ ہے۔

❁ البلایا علی الحَوَایا: حوایا حَوِیّة کی جمع ہے اور حویّہ اونٹ کی کوہان کے گرد رکھے جانے والے اس نمدہ کو کہا جاتا ہے جس میں بھوسا بھرا ہوا ہو۔ اس مثل کا معنی یہ ہے کہ مصائب جن لوگوں پر آنے ہوں آکر رہتے ہیں کوئی ان سے بچ نہیں سکتا۔ مقدر کا لکھا پورا ہوتا ہے۔ نیز اس شخص کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جو خود مصیبت مول لے۔

❁ بَنَانُ کَفٍّ لیس فیها ساعدُ: ایسی ہتھیلی کی انگلیاں جن کا بازو نہیں۔ یہ اس شخص کے لئے ہے جو ہمت تو رکھتا ہو مگر دل کی مراد حاصل کرنے کی طاقت سے محروم ہو۔

❁ أنا ابنُ جلا: میں جلا کا بیٹا ہوں (یہ مشہور ومعروف شخص کے لئے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شاعر کے قول کا ٹکڑا ہے، جو یہ ہے۔

انا ابنُ جلا و طلاّعُ الثنایا

متی أضعِ العمامة تعرفونی

(میں جلا کا بیٹا ہوں اور گھاٹیوں پر چڑھ جانے والا ہوں۔ جب میں عمامہ اتاروں گا تو تم مجھے پہچان لوگے) ابن جلا دراصل انا ابن الذی یقال لہ جلا الامورَ و کشفها (میں اس کا بیٹا ہوں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے امور کو واضح اور آشکارا کیا)

❁ رُبَّ ابنِ عَمّ لَیْسَ بابنِ عمّ: بہت سے چچازاد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چچازاد نہیں ہوتے۔ (جو چچازاد نہ تمہاری مدد کرے اور نہ کوئی فائدہ پہنچائے وہ گویا تمہارا چچازاد نہیں ہے)۔

❁ بِنتُ صفًا تقولُ مَن سَمَاعٍ: بنت صفا وہی کہتی ہے جو سنتی ہے

(بنت الصفا ایسا ہی کلمہ ہے جیسے بنت الجبل جس کا معنی صدائے بازگشت ہے۔ صدائے بازگشت وہ آواز ہے جسے پہاڑ وغیرہ آواز دینے والے کی طرف لوٹا دے۔ اس کو مونث صیغہ کے معنی پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ضرب المثل اس شخص کے بارے میں ہے جسے اگر کسی اچھے یا برے کام کی طرف مدعو کیا جائے تو وہ اس پر عمل کرے، جیسے پہاڑ کی گونج ہر آواز کا جواب دیتی ہے۔ یہ مثل اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو ہر بولنے والے کے ساتھ بات کرے اور ہر سوال کرنے والے کو جواب دے۔

❁ یَبْنِی قَصْرًا ویهدِمُ مِصرًا: وہ محل تعمیر کرتا ہے اور شہر گراتا ہے۔ اس شخص کے متعلق بولا جاتا ہے جس کی شر اس کے خیر سے زیادہ ہو۔

❁ اَبْهَی من القَمَرَین: آفتاب اور ماہتاب سے بھی زیادہ درخشاں (ہمارے ہاں چندے آفتاب چندے ماہتاب)

❁ بَالَ حِمَارٌ فاستبالَ اَحْمِرَةً: ایک گدھے نے پیشاب کرکے بہت سے گدھوں سے پیشاب کرایا۔ (احمرة حمار کی جمع ہے۔ اس قوم کے متعلق کہا جاتا ہے جو ایک شخص کے برے کام کی تقلید کرنے لگے)۔

❁ بَالَتْ بینهم الثعالبُ: ان کے درمیان لومڑیوں نے پیشاب کر دیا۔ (ایسی قوم کے بارے میں ہے جن کے درمیان فساد پڑ جائے۔

❁ لو کان فی البومة خیرٌ ما ترکها الصَیّادُ: اگر کسی الو میں کوئی بھلائی ہوتی تو اسے شکاری کبھی نہ چھوڑتا۔

❁ بَیْتِی یبخلُ لا أنا: میرا گھر بخل کرتا ہے میں نہیں۔ یہ بات ایک عورت نے کہی جس سے ایک چیز مانگی گئی تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ تو اسے کہا گیا کہ اس نے بخل سے کام لیا تو اس نے مندرجہ بالا مثل کہی جس کا معنی یہ ہے کہ بخل میرے مزاج میں نہیں لیکن گھر میں دینے کو کوئی چیز نہیں۔

❁ أَبَادَ اللّٰهُ خضراءَهم: اللہ کرے ان کی آسودگی اور خوش حالی جاتی رہے۔ (بددعا ہے)

❁ کانت بیضةُ الدیك: مرغ کا انڈا تھا۔ (یہ مثل اس چیز کے لئے بولی جاتی ہے جو صرف ایک دفعہ ہو۔ کیونکہ عربوں کے نزدیک مرغ بھی ایک بار انڈا دیتا ہے)

❁ بَیْضَةُ الیوم خیرٌ مِنْ دُجاجةِ الغد: آج کا انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے۔ (نو نقد نہ تیرا ادھار)

❁ بیضةُ البَلَد: (دیکھیں اذل مادہ "ذ" میں۔ مراد وہ ریتلی جگہ جہاں شتر مرغ انڈے دیتے ہیں۔ یعنی کوئی اس کا پرسان حال نہیں)

❁ دُونَه بَیْضُ الأنُوق: اس سے ورے عقاب کا انڈا ہے۔ (عقاب ایسی جگہ انڈا رکھتا ہے جس تک دوری اور پوشیدگی کی وجہ سے رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ اس چیز کے لئے کہا جاتا ہے جس کا حصول مشکل ہو)

❁ ما کُلُّ بَیْضَاءَ شَحْمَةً ولا کُلُّ سوداءَ تَمْرَةً: نہ ہر سفید چیز چربی ہوتی ہے اور نہ ہر کالی چیز کھجور۔ (ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی)

❁ باعَ بِالْعِرْضِ القَفَا: جو اپنی آبرو بیچے وہ سب کچھ ضائع کر دیتا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہے۔(جو بھی لوگوں کی گالیاں سننے والے کام کرے گا اسے گالیاں تیار ملیں گی۔انفق کا معنی ہے۔بکتا ہوا پایا یا سہولت سے سودا ہو گیا۔

❁ بِعْتُ جَارِي ولم أبِعْ دَارِي: میں نے پڑوسی بیچا ہے۔اپنا گھر نہیں بیچا۔(مجھے اپنا گھر پیارا تھا لیکن اپنے پڑوسی کی بد خلقی کی وجہ سے گھر بیچ دیا تا کہ اس سے دور ہو جاؤں۔اس شخص کے متعلق ہے جو پڑوسی کی بدمعاشی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ دے۔

❁ لاتَبِعْ نَقْدًا بِدَيْنٍ: نقد ادھار کے بدلہ میں نہ بیچ۔

❁ قد بَيَّنَ الصبحُ لِذِي عَيْنَيْنِ: بَيَّنَ یہاں تبيَّن کے معنی میں ہے۔اس مثل کا مفہوم ہے۔صبح آنکھوں والے کے لئے ظاہر ہو گئی۔مکمل طور پر ظاہر معاملہ کے لئے بولا جاتا ہے۔

❁ أَبْيَنُ مِن فَلَقِ الصُّبح او فَرَقِ الصُّبح: صبح کی روشنی سے بھی زیادہ ظاہر۔(فلَق الصبح اور فرَق الصبح کا معنی فجر (سویرا، تڑکا) ہے۔

❁ إنَّ مِنَ البيان لسحراً: جادو خوش بیانی کی ایک قسم ہے(یعنی بعض خوش بیانی جادو کا کام کرتی ہے۔سحر کا معنی حق کی صورت میں باطل کا اظہار ہے۔خوش بیانی کو سحر سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سننے والے میں بڑا کام دکھاتی ہے اور دل اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔یہ مثل تقریر کی پر جوش تائید اور دور رس دلیل پیش کرنے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔

ت

❁ انا تَئِقٌ وأنتَ مَئِقٌ فكيفَ نتَّفِقُ: میں غضبناک ہوں اور تو بے صبر ہے پھر ہم کیسے متفق ہوں۔(یہ دو مختلف عادات والوں کے متعلق ہے۔تئِق کا معنی غضبناک اور مئِق بے صبر ہے۔)

❁ أتبِعِ الفرسَ لِجَامَها والناقةَ زِمَامَها: گھوڑے کے ساتھ لگام اور اونٹنی کے ساتھ مہار بھی دو(تا کہ بخشش مکمل ہو۔)

❁ أتبِعِ الدَّلْوَ بالرشاء: ڈول کے ساتھ رسی بھی دو۔رشاء پانی کھینچنے کی رسی کو کہتے ہیں۔(یہ ایک چیز دوسری سے منتہی کرنے کے متعلق ہے)

❁ أتبَعُ مِنَ الظِّلِّ: سایہ سے زیادہ پیچھا کرنے والا۔

❁ لَوْ إتجرتَ بالأكفانِ ما مَاتَ أحدٌ: اگر تو کفنوں کی تجارت کرتا تو کوئی نہ مرتا۔

❁ لاتِجارةَ كَالعَمَلِ الصَّالِح: عمل صالح جیسی کوئی تجارت نہیں۔

❁ تَرَكَ ظَبْيٌ ظِلَّهٗ: ہرن نے اپنا سایہ چھوڑ دیا۔اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو عیش و آرام سے نکل کر سختی و تنگی میں چلا جائے۔

❁ تَرَكْتُهُ على أنقى من الراحة: میں نے اسے ہتھیلی سے بھی زیادہ صاف حالت میں چھوڑا۔(یعنی اچھی حالت میں نہیں چھوڑا جیسے ہتھیلی پر بال نہیں ہوتے،

❁ تَرَكْتُهُم عَلَى مِثْلِ مِشْفَرِ الأَسَدِ: میں نے گویا اس کو شیر کے ہونٹ کے پاس چھوڑا(ہلاکت کے خطرہ میں چھوڑ دیا)

❁ تركتهم في حَيْصَ بَيْصَ او حَيْصِ بَيْصٍ: حیص کا معنی فرار اور بوص کا معنی بھاگنا اور چھپنا۔وزن میں مشابہت کے لئے اس کی واؤ کو یاء سے بدل دیا گیا ہے۔ضرب المثل کا معنی ہے: "میں نے انہیں مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑا" اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو ایسے معاملہ میں پھنس جائے جس سے نہ تو چھٹکارا ہو اور نہ فرار ممکن ہو۔

❁ مَا تَرَكَ الاوَّلُ للآخر شيئًا: پہلے نے دوسرے کے لئے کچھ نہیں چھوڑا۔

❁ مَنْ تَرَكَ الشهواتِ عَاشَ حُرًّا: جس نے خواہشات کو چھوڑا، اس نے شرافت کی زندگی بسر کی۔

❁ لَوْ تُرِكَ القطا ليلاً لَنَامَ: اگر قطارات کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ سو جاتا۔(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے کسی تکلیف دہ کام پر مجبور کیا جائے یا جسے ظلم پر ابھارا جائے اور وہ ظلم کرے)

❁ لايَتْرُكُ السَّاقَ إلَّا مُمْسِكاً ساقاً: وہ ایک تنہ کو دوسرا تنا پکڑے بنا نہیں چھوڑتا۔اس مثل کی اصل گرگٹ میں ہے جو ایسا ہی کرتا ہے۔مراد محتاط شخص ہے۔

❁ لايَتْرُكُ الظبيُ ظِلَّهُ: ہرن اپنا سایہ نہیں چھوڑتا۔(مانوس کام پر ڈٹے رہنے کے متعلق ہے۔)

❁ أتْرُكِ الشَّرَّ يَتْرُكْكَ: تو شر کو چھوڑ دے شر تجھے چھوڑ دے گا۔(یعنی شر اسے پیش آتا ہے جو اس سے پنگا لے)

❁ تَرْكُ الجوابِ على الجاهلِ جوابٌ: جاہل کو جواب نہ دینا ہی جواب ہے(جواب جاہلاں باشد خاموشی)

❁ تَرْكُ مَا لايَصْلُحُ أصْلَحُ: ناقابل اصلاح کو چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے۔

❁ إذَا تَمَّ العَقْلُ نقصَ الكلامُ: عقل کامل ہو جائے تو باتوں میں کمی آجاتی ہے۔

❁ تَمَّامُ الربيعِ الصيفُ: فصل ربیع کے آثار گرمی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔(اسی طرح عرب کہتے ہیں: الأعْمَالُ بِخواتِيمِها۔اعمال کا اعتبار ان کے خاتمہ سے کیا جاتا ہے تمام ضرورت پوری ہونے کے بارے میں ہے۔)

❁ أتَمُّ مِن قَمَرِ التَّمِّ: پورے چاند سے بھی زیادہ کامل۔(تم کا معنی اس جگہ تمام ہے۔یعنی بدر التمام۔

❁ التَّمْرَةُ والجَمْرَةُ: خیر و شر یا نفع و نقصان (تمرہ بمعنی کھجور، جمرۃ بمعنی چنگاری ہے)

❁ التائب من الذَّنْبِ كَمَنْ لاذَنْبَ له: گناہوں سے توبہ کرنے والا اس جیسا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

❁ تاجُ المُرُوْءَةِ التَّوَاضُعُ: شرافت کا تاج تواضع ہے۔

❁ أتْيَهُ مَن قوم مُوْسَى: قوم موسیٰ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔(تیہ کا معنی بھٹکنا ہے۔مراد قوم موسیٰ کا چالیس سال ایسے صحراء میں رہنا ہے جس میں قدموں کے نشان نہیں ہوتے تھے)۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ث

❁ ثَاطَةٌ مُدَّت بِمَاءٍ: بدبودار کیچڑ وہ بھی پانی والا۔ (ایسی گلی سڑی چیز جس میں ویسی ہی کسی اور چیز کا اضافہ ہو جائے۔ (ہمارے ہاں کریلا وہ بھی نیم چڑھا)

❁ أَثبَتُ فِي الدَّارِ مِنَ الجِدَار: دیوار سے بھی زیادہ گھر میں ڈٹا رہنے والا۔

❁ أَثبَتُ مِنَ الوَشمِ: گودنے کے نقوش سے بھی زیادہ پائیدار۔

❁ مَالَهُ ثَاغِيَةٌ ولارَاغِية: وہ قلاش ہے۔ (ثاغية بھیڑ اور راغية اونٹنی کو کہتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس نہ تو بھیڑ ہے اور نہ ہی کوئی اونٹنی یعنی کچھ بھی نہیں)

❁ أَثقَلُ مِنْ رَضْوَى: رضوی سے بھی زیادہ بھاری (رَضْوَی مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے)

❁ أَثقَلُ مِنْ طَوْد: بڑے پہاڑ سے زیادہ وزنی۔

❁ أَثقَلُ مِنْ أُحُد: احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی (اُحُد یثرب کے ایک پہاڑ کا نام ہے)

❁ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَيَّ جَرْدٍ تَرْقَعُ: تیری ماں تجھے روئے، تو کونسے کپڑے کو پیوند لگا رہا ہے؟ (جرد کا معنی پرانا کپڑا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسے کام کرے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو)

❁ الثَّكْلَى تُحِبُّ الثَّكْلَى: گمشدہ بچے کی ماں گم شدہ بچے کی ماں کو ہی پسند کرتی ہے۔ (کند ہم جنس با ہم جنس پرواز)

❁ لايُثْمِرُ الشوكُ العِنَبَ: کانٹا انگور کا پھل نہیں دیتا۔

❁ ثَمَرَةُ الجُبنِ لارِبْحٌ ولاخُسْر: بزدلی کا نتیجہ نہ نفع نہ نقصان (خسر کا معنی نقصان ہے) یہ مثل ایسی ہے جیسے عام لوگ کہتے ہیں، التاجر الجبان لايربح ولا يخسر بزدل تاجر نہ نفع کماتا ہے نہ نقصان اٹھاتا ہے۔

❁ لِكُلِّ ثَوْبٍ لابِسٌ: ہر کپڑے کا کوئی نہ کوئی پہننے والا ہے۔

❁ ثَارَ حَابِلُهُمْ عَلَى نَابِلِهِمْ: ان کا جال والا ان کے نیزے والے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ (مراد سب کچھ گڈمڈ ہو گیا۔)

❁ الثَّورُ يَحمِي أَنْفَهُ بِرَوْقِهِ: بیل بھی اپنی ناک کی حفاظت اپنے سینگ سے کرتا ہے۔ (روق کا معنی سینگ ہے۔ ہمارے ہاں اس کے مقابلہ میں ضرب المثل اپنی عزت آپ ہے)

ج

❁ أَجْبَنُ مِنْ نَعَامَةٍ: شترمرغ سے بھی زیادہ بزدل۔ (کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی چیز سے ڈر جائے تو خوف زدہ ہونے کے بعد وہ اس چیز کا رخ نہیں کرتا)

❁ أَجْبَنُ مِنْ صَافِرٍ: صافر سے زیادہ بزدل۔ (کہا جاتا ہے کہ صافر ایک پرندہ ہے۔ جو اپنی ٹانگوں سے درخت کی شاخ پکڑ کر الٹا لٹک جاتا ہے اور تمام رات سیٹی بجاتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سو جائے اور پکڑ لیا جائے)۔

❁ إِنَّ الجَبانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوقِهِ: بزدل کی موت اوپر سے آتی ہے (ایسے بزدل کے بارے میں کہا جاتا ہے جسے اس کی احتیاط بھی نہیں بچاتی)

❁ بِجَبْهَةِ العَيْرِ يُفدَى حافِرُ الفَرَس: گدھے کی پیشانی گھوڑے کے کھر کے فدیہ میں دی جاتی ہے۔ (عیر گدھے کو کہا جاتا ہے)

❁ الجَحْشَ لَمَّا فَاتَكَ الأعيارُ: اگر گدھے نہ ملیں تو گدھے (کے بچے کے شکار) پر اکتفا کر۔ (یہ ضرب المثل ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کسی بڑی چیز کا خواہاں ہو اور وہ ہاتھ نہ آئے تو اسے کہا جائے کہ اس سے کم پر گزارہ کر۔ جحش اس لئے منصوب استعمال ہوا ہے کہ اصل میں اس سے پہلے اُطْلُبْ محذوف ہے)

❁ قَدْجَدَّ أَشْيَاعُكم فجِدُّوا: تمہارے ساتھیوں نے کوشش کی ہے لہٰذا تم بھی کوشش کرو۔ (ساتھیوں کے کام میں شراکت پر ترغیب کے لئے کہا جاتا ہے الاشیاع بمعنی اصحاب ہے)

❁ مَنْ جَدَّ وَجَدَ: (جو کوشش کرے پالیتا ہے)

❁ جُدَّ لامْرِئٍ يَجِدَّلَكَ: جس شخص کے لئے بھلائی چاہے گا وہ بھی تیرے لئے ایسی ہی بھلائی پسند کرے گا۔

❁ جِدَّكَ يرعى نَعَمَك: تیری کوشش تیرے مویشی چراتی ہے۔ (یہ مال دار مال اڑانے والے کے متعلق ہے۔)

❁ جِدُّكَ لاكَدُّكَ: کام میں تیری کوشش اور دلچسپی و توجہ تجھے فائدہ دیتے ہیں نہ کہ تیری شدت اور اصرار کے ساتھ طلب۔ جدَّك لا كدَّك بھی منقول ہے اس صورت میں اِبْغِ (امر) محذوف سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ عبارت یوں ہوگی۔ ابغ جِدَّك لا كَدَّك۔

❁ كُلُّ جِدَّةٍ سَتُبْلِيُهَا عِدَّةٌ: ہر نئی چیز کو دن اور رات پرانا کر دیں گے۔ (عِدَّة سے مراد عِدَّةُ الايام و الليالي ہے۔)

❁ نِعْمَ الجُدُودُ ولٰكِنْ بِئسَ ماخَلَفُوا: آباء و اجداء تو بہت اچھے تھے لیکن ان کے اخلاف بہت برے ہیں۔

❁ لاجَدِيْدَ لِمَنْ لاخَلَقَ له: جس کے پاس پرانا نہ ہو اس کے پاس نیا بھی نہیں ہوگا (مراد یہ ہے کہ پرانے کی حفاظت کرو اسے ضائع نہ کرو تاکہ نیا بھی محفوظ رہے)۔

❁ جُدَيْدَةٌ فِي لُعَيْبَة: (یہ) کھیل میں پوشیدہ بڑی سنجیدگی (ہے)۔ جُدَيْدَة جدّ کی تصغیر ہے اور اس کا معنی سنجیدگی ہے۔)

❁ مَنْ أَجْدَبَ إِنْتَجَعَ: جو قحط زدہ ہو وہ گھاس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ (إِنتَجع القومُ الكلأ کا معنی ہے لوگ گھاس کی طلب میں ایسی جگہوں پر گئے جہاں گھاس پایا جاتا ہے) ضرورت مند کے بارے میں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لئے خوب کوشش کر)

❁ وبَعْضُ الجَدْبِ أَمْرأُ لِلْهَزِيل: ایک خشک سالی (ایسی بھی ہوتی ہے جو) لاغر کے لئے بہت خوشگوار ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جو مالداری سنبھال نہ سکے اور ظلم اور گناہوں میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ الطعام المرِیٔ ہضم ہونے والے خوشگوار کھانے کو کہا جاتا ہے۔

❁ جَدَحَ جُوَيْنٌ مِن سَوِيقِ غَيْرِهِ: جوین نے کسی اور کا ستو گھول لیا۔ (جوین ایک شخص کا نام ہے۔ جَدَحَ السويقَ کا معنی ستو کو گھی وغیرہ میں گھولنا ہے۔ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو دوسروں کے مال میں فیاضی دکھائے۔ یہ ضرب المثل ایسے شخص کے لئے بھی بولی جاتی ہے جو لالچی ہو اور بہت زیادہ سوالی ہو)

❁ أَجْدَى مِنَ الْغَيْثِ فِيْ أَوَانِهِ: بروقت بارش سے زیادہ سودمند (الإجداء کا معنی نفع ہوتا ہے۔ أجدى بمعنی أنفع: (زیادہ نافع، زیادہ سودمند) لیکن افعل التفضیل کا باب افعال سے اشتقاق شاذ ہے)

❁ جَذْبُ الزِمَامِ يَرِيْضُ الصِعَابَ: باگ کھینچ کر رکھنے سے بے سدھ گھوڑا سدھ جاتا ہے۔ (ایسے شخص کے لئے کہتے ہیں جو ابتداء میں حکم نہ مانے۔ مگر آخر میں مطیع ہو جائے۔ صِعاب ایسے گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس پر سواری نہ کی گئی ہو اور اس وجہ سے وہ اڑیل اور سرکش ہو جائے)

❁ اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّك وعُذَيْقُهَا المُرَجَّب: میں اس کا وہ تنا ہوں جس سے خارش زدہ بدن کھجلایا جاتا ہے اور وہ کھجور کا درخت ہوں جس کے گرد پتھروں کی باڑھ بنائی گئی ہو۔ (جُذَيْل جذْل کی تصغیر ہے۔ جذْل کا معنی درخت کا تنا ہے۔ عُزَيق عَذْق کی تصغیر ہے۔ عَذْق کا معنی کھجور کا درخت ہے۔ المُحَكك جس سے خارش زدہ اونٹ اپنا بدن کھجلائیں اور المُرَجَّب جس کے لئے باڑ بنائی جائے۔ یہ باڑ پتھروں کی ہوتی ہے اور کھجور کے درخت کے گرد اس وقت بنائی جاتی ہے جب وہ لمبا ہو جائے اور خطرہ ہو کہ آندھیاں اسے گرا دیں گی۔ تصغیر تعظیم کے لئے ہے۔ یہ بات وہ کہتا ہے جس کی عقل ورائے سے استفادہ کیا جائے۔

❁ جِذْلُ حُكَاكٍ: کھجلی دار بیماری کا تنا۔ (جذل درخت کا تنا، جو اونٹوں کے باڑوں میں نصب کر دیا جاتا ہے خارش والے اونٹ اس سے اپنا بدن کھجاتے ہیں۔ حکاک کھجلی دار بیماری کو کہتے ہیں۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی رائے اور عقل سے شفا حاصل کی جاتی ہو۔

❁ كُلٌّ يَجُرُّ النَارَ إِلى قُرْصِهِ: ہر شخص آگ کو اپنی ٹکیا کی طرف کھینچتا ہے۔ (یعنی ہر شخص اپنی ذات کے لئے خیر اور بھلائی چاہتا ہے)

❁ أَجْرَأَ مِن ذي لُبْدَة: شیر سے زیادہ جری (ذی لُبدۃ بمعنی شیر)

❁ أَجْرَأَ مِنْ اسامَة: شیر سے زیادہ دلیر (اسامہ شیر کا نام ہے اور معرفہ ہے اس پر الف لام تعریف کا داخل نہیں ہوتا)

❁ أَجْرَأَ مِن لَيْثٍ بِخَفَّانَ: خفان کے شیر سے زیادہ بہادر (خفان شیروں کا مشہور جنگل)

❁ أَجْرَأَ مِن ذُبَاب: مکھی سے زیادہ دلیر (جو بادشاہ کی ناک اور شیر کی پلک پر جا کر بیٹھ جاتی ہے)

❁ أَجْرَدُ من صَلَعَة: گنجے کی ٹانٹ سے بھی زیادہ ننگا (صَلَعَة گنجے کے سر کا وہ حصہ جو چمکتا ہے)

❁ أَجْرَدُ مِن صَخْرَة: چٹان سے زیادہ صاف (جس پر کوئی روئیدگی نہیں ہوتی اور چکنی ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی)

❁ كَالْجَرَادِ لايُبْقِي ولايَذَرُ: ٹڈی کی طرح جو نہ تو کچھ رہنے دیتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے (یعنی سب کچھ چٹ کر جاتی ہے)

❁ جَرْعٌ و اَوْشَالٌ: سیرابی اور تھوڑا پانی؟ (جرع بمعنی سیراب ہو کر پانی پینا، وشل بمعنی تھوڑا پانی۔ یعنی مال تھوڑا ہے اور تو فضول خرچ ہے۔ فضول خرچی میں مال اڑانے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔ نرمی اختیار کر ورنہ تو اپنی دولت ختم کر بیٹھے گا۔

❁ الجَرْعُ أَرْوَى والرَشِيْفُ أَنْقَعُ: پانی نگل لینا جلد سیراب تو کر دیتا ہے لیکن چوس کر پینا زیادہ تشفی بخش ہے۔ (رشیف کا معنی پانی چوس کر پینا۔ جرع بمعنی نگلنا ہے۔ نقع پیاس کی تسکین کے معنی میں ہے۔ یعنی پانی تھوڑا تھوڑا چسکیاں لے کر پیا جائے تو پیاس جلد بجھ جاتی ہے اور تسکین دیرپا ہوتی ہے۔ اروی بمعنی جلد سیر کرنے والا اور انقع بمعنی پائیدار تسکین بخش ہے۔

❁ لاجُرْمَ بَعْدَ النَدَامَة: ندامت کے بعد کوئی جزم باقی نہیں رہتا۔

❁ إذا جَرَى الْمُذَكِّي حَسَرتْ عَنْهُ الحُمُر: جب پوری عمر اور طاقت والا گھوڑا چلتا ہے تو گدھے تھک کر اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ حسر کا معنی تھکنا عاجز ہونا ہے۔ مذکی اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کی عمر اور طاقت پوری ہو۔ یہ مثل ایسے شخص کے لئے کہی جاتی ہے جو اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جائے یعنی وہ اس طرح آگے نکلتا ہے جس طرح شرط میں تیز رفتار گھوڑا گدھوں سے آگے نکل جاتا ہے)

❁ يَجْرِى بُلَيْقٌ ويُذَمُّ: بلیق دوڑتا ہے پھر بھی اس کی مذمت ہوتی ہے (بلیق ایک گھوڑے کا نام ہے جو دوڑ میں جیتا کرتا تھا پھر بھی اس کی برائی کی جاتی تھی۔ یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے جب محسن کی مذمت کی جائے۔

❁ تَجْرِى الرياحُ بِمَا لاتَشْتَهِي السُفُنُ: ہوائیں چلتی ہیں تو ایسی چیزیں بھی لے آتی ہیں جو کشتیوں کو ناپسند ہوں۔

❁ أَجْرِ الأُمُوْرَ عَلَى أَذْلالِها: معاملات کو صحیح طور پر چلاؤ۔ (اذلال کا واحد ذل (نرمی) ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تم معاملہ صحیح طور پر چلاؤ گے تو تمہارے لئے ان کا درست طرز سے چلنا دشوار نہ ہوگا۔

❁ جَرْيُ المُذَكِّيات غِلاءٌ: پوری عمر اور طاقت والے گھوڑوں کی دوڑ میلوں تک ہوتی ہے۔ (غلا، غلوۃ کی جمع ہے جو اس انتہائی فاصلہ کو کہا جاتا ہے جہاں تک تیر جا سکے۔ یہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھیوں پر فوقیت سے متصف ہو۔

❁ الجَزَع عِنْدَا المُصِيْبَةِ مُصِيْبَةٌ اُخْرَى: مصیبت کے وقت گھبراہٹ ایک اور مصیبت ہے۔

❁ جَزَاهُ جَزَاءَ سِنِمَّار: اس کو سنمار جیسی جزا دی۔ (سنمار بادشاہ نعمان

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بن امرئ القیس کا رومی معمار تھا جس نے کوفہ کے باہر خورنق نام کا محل تعمیر کیا تھا۔ جب وہ اس کی تعمیر سے فارغ ہوا تو بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے پھینک دیا جو گر کر مر گیا۔ مقصد یہ تھا کہ سنمار اس جیسا محل کسی دوسرے کیلئے نہ بنا سکے۔ یہ مثل ایسے محسن کے لئے بولی جاتی ہے جس کو بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا گیا ہو۔

❁ جَزَيْتُهُ كَيْلَ الصاعِ بالصاعِ: میں نے اس کو اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا لفظی ترجمہ میں نے اس کو پیمانہ کا پیمانہ سے بدلا دیا۔ یعنی برابر کا بدلہ دیا۔ (بھلائی کا بھلائی سے اور برائی کا برائی سے بدلہ دیا)

❁ هَذا جزاءُ مُجِيرِ اُمِّ عامِرٍ: یہ بجو کو پناہ دینے والے کا بدلہ ہے۔ (امّ عامر بجو کی کنیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن خوف زدہ بجو ایک اعرابی کے پاس اس کے خیمہ میں آیا۔ اعرابی نے اسے پناہ دی اور کھلایا پلایا حتیٰ کہ سیراب اور مطمئن کر دیا۔ لیکن بجو کو جب موقع ملا اعرابی کو شکار کر لیا۔)

❁ الجزاءُ مِنْ جنسِ العَمَلِ: جزاء عمل کی قسم سے ہے (جیسی کرنی ویسی بھرنی یا جیسے کرم ویسے پھل)

❁ تَجَشَّأَ لُقْمانُ مِنْ غَيْرِ شِبَعٍ: لقمان نے پیٹ بھرے بغیر ہی ڈکار لی۔ (ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو غریب ہوتے ہوئے دولمندی ظاہر کرے یا کمزور ہوتے ہوئے بہادر بنے۔)

❁ جَعْجَعَةً ولا أرى طِحْنًا: چکی کی آواز سنتا ہوں لیکن آٹا نظر نہیں آتا (طِحن: آٹا۔ جَعْجَعة چکی کی آواز اس کے لئے کہا جاتا ہے جو وعدہ کر کے نہ نبھائے)

❁ من جَعَلَ نَفْسَهُ عَظْماً أكَلَتْهُ الكلابُ: جو شخص اپنے آپ کو ہڈی بنائے اس کو کتے کھا لیں گے۔

❁ لاتَجْعَلْها بَيْضَةَ الدِّيكِ: اس کو مرغے کا انڈا نہ بناؤ (کہا جاتا ہے مرغا اپنی عمر میں ایک انڈہ دیتا ہے ایک شاعر کا قول ہے: قَدْ زُرْتِنا مَرَّةً فِي الدَّهْرِ واحِدَةً ثَنِّي ولا تجعليها بيضة الديك (اے محبوبہ! تو تمام عرصہ ایک مرتبہ ہی ہمارے پاس آئی ہے۔ دوسری بار بھی آ اور اس کو مرغ کا انڈا نہ بنا)۔

❁ أجْفَى مِنَ الدَّهْرِ: زمانہ سے زیادہ بد خلق۔

❁ جِلْدُ الخِنْزِيرِ لايُدْبَغُ: سور کی کھال رنگی ہوئی نہیں ہوتی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس پر نصیحت کارگر نہیں ہوتی)۔

❁ تَحْتَ جِلْدِ الضَّأنِ قَلْبُ الأذْؤُبِ: بھیڑ کی کھال کے نیچے بھیڑیوں کا دل (أذؤُب ذِئْب کی جمع ہے ذِئب کا معنی بھیڑیا ہے۔ منافق اور دھوکے باز کے لئے کہا جاتا ہے)۔

❁ جَليسُ المَرْءِ مِثْلُهُ: آدمی کا ہم نشین اسی جیسا ہوتا ہے)

❁ جَلَّى مُحِبًّا نَظَرُهُ: دوست کے تیری طرف دیکھنے نے اس کی محبت کو ظاہر کر دیا (لوگوں کی محبت اور نفرت کے بارے میں یہ مثل بولی جاتی ہے)

❁ لايُجْمَعُ سَيْفانِ فِي غِمْدٍ: ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہوتیں۔

❁ مايُجْمَعُ بَيْنَ الأرْوَى والنعام: پہاڑی بکرا اور شتر مرغ اکٹھے نہیں ہو سکتے (کیونکہ اروٰی (پہاڑی بکرا) ریگستان میں نہیں چل سکتا، جبکہ نعام (شتر مرغ) پہاڑ کی بلندیوں پر نہیں چڑھ سکتا۔ دو متضاد چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے)۔

❁ أجْمَعُ مِن نَمْلَةٍ: چیونٹی سے زیادہ ذخیرہ اندوز (جو کل کے لئے جمع کر کے رکھتی ہے)

❁ مَنْ أجْمَلَ قِيلاً سَمِعَ جَمِيلاً: جو اپنی گفتگو اچھی رکھے گا اچھی ہی سنے گا۔

❁ الجَمَلُ مِنْ جَوْفِهِ يَجْتَرُّ: اونٹ اپنے پیٹ سے ہی جگالی کرتا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو اپنی کمائی سے کھاتا ہے یا جو ایسی چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس کو نقصان پہنچائے)

❁ الجُنونُ فُنُونٌ: جنون کی کئی قسمیں ہیں۔

❁ لِكُلِّ جَنْبٍ مَضْجَعٌ: ہر پہلو کے لئے خواب گاہ ہے۔

❁ لِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعٌ: ہر پہلو کے لئے پچھاڑ ہے۔ (یعنی ہر زندہ کے لئے موت ہے)

❁ إنْ جانِبٌ أعْيَاكَ فَالْحَقْ بجانِبٍ: (اگر ایک پہلو نے تھکا دیا ہے تو دوسرے پہلو کے ساتھ لگ جا (یعنی پہلو بدل لے)

❁ جَنَتْ عَلَى أهْلِها بَرَاقِشُ: براقش نے اپنے ہی مالکوں پر ظلم کیا۔ (اس ضرب المثل کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے دشمنوں سے بھاگے پھرتے تھے ان کی ایک کتیا براقش نامی تھی۔ ایک رات وہ چلے جا رہے تھے اور دشمن کہیں قریب ہی ان کو تلاش کر رہے تھے تو انہیں کتیا کے بھونکنے سے ان کا پتہ چل گیا وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اسی واقعہ سے ایک ضرب المثل چل پڑی)

❁ إنَّكَ لاتَجْنِي مِنَ الشَّوْكِ العِنَبَ: تو کانٹوں سے انگور کے پھل نہیں چنے گا۔ (یعنی ظلم کرے تو انتقام سے ہوشیار رہ۔ کیونکہ ظلم کر کے تو بھلائی نہیں کما سکتا۔ اور یہ بھی مفہوم ہے کہ تجھے بد اصل سے نیکی نہیں ملے گی)

❁ أجْناؤُها أبْناؤُها: دست درازی کرنے والے اس کے معمار ہی ہیں (اجناء جناہ کو کہا جاتا ہے جو جان کی جمع ہے۔ بمعنی جرم کرنے والا اور ابناء بان کی جمع ہے بمعنی معمار۔ جمع کی یہ مثل نادر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ یمن کے ایک بادشاہ نے جنگ پر جاتے ہوئے اپنی لڑکی کو قائم مقام بنایا، جس نے بادشاہ کے جانے کے بعد ایک عمارت بنوائی جسے بادشاہ نے اچھا نہیں سمجھا تھا یہ عمارت بنوانے پر لڑکی کو مملکت کے کچھ لوگوں نے اکسایا تھا۔ جب بادشاہ واپس آیا اور اسے ان کے مشورے سے مطلع کیا گیا تو بادشاہ نے اس عمارت کے گرانے کا حکم دیا [illegible] اجناؤها ابناؤها کہا۔ اس پر یہ ضرب المثل مشہور ہوئی۔ اس

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ عمارت گرانے کا جرم کر رہے ہیں جنہوں نے اسے تعمیر کیا تھا۔ یہ مثل برے مشورے اور بری رائے کے بارے میں ہے اور اس شخص کے لئے ہے جو بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرے پھر اسے خراب کی ضرورت پڑ جائے۔

❁ هل يجهل فلاناً إلاّ من يجهل القمر: فلاں چیز سے وہی بے خبر ہوسکتا ہے جو چاند سے بے خبر ہو۔ (مشہور بات کے متعلق بولا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، چاند نکلا سب نے دیکھا)

❁ الجهل مطيّة من ركبها ذلّ ومن صحبها ضلّ: جہالت ایک ایسی سواری ہے، جس پر سواری کرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا راستہ سے بھٹک جاتا ہے۔

❁ الجهل شرّ الاصحاب: جہالت بدترین ساتھی ہے۔

❁ أجهل من عقرب: بچھو سے بھی زیادہ جاہل (جو چٹان سے گزرتے ہوئے اسے ڈنک مار دیتا ہے جس سے چٹان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، الٹا وہ اپنے ڈنک کو نقصان پہنچا لیتا ہے)

❁ أجهل من فراشة: پروانہ سے بھی زیادہ جاہل (جو چراغ پر گر کر مر جاتا ہے)

❁ وعند جهينة الخبر اليقين: جہینہ کے پاس ہی۔ یقینی خبر ہے۔ (کسی معاملہ کی حقیقت جاننے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ حصین غطفانیؔ گھر سے نکلا اس کے ساتھ بنی جہینہ کا ایک شخص اخنس بن کعب نامی تھا۔ دونوں میں سے ہر ایک بہادر اور بدعہد تھا۔ انہیں راستے میں بنی لخم کا ایک شخص ملا، جس کے آگے کھانے پینے کی چیزیں اور شراب رکھی تھی۔ اس نے ان دونوں کو مدعو کیا جس پر یہ اس کے مہمان بنے اور اس کے ساتھ کھایا اور پیا۔ پھر اخنس اپنے کسی کام سے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ لخم قبیلہ کا وہ شخص خون میں لت پت پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حصین سے کہا، تجھے موت آئے اس شخص کو کیسے قتل کر دیا جس کا ہم نے کھایا پیا تھا۔ تو حصین نے جواب دیا: بیٹھ جا، ہم ایسے ہی کام سے نکلے تھے۔ پھر دونوں نے شراب پی اور باتیں کرنے لگے۔ حصین اسے بھی موقع پا کر قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جہینہ نے یہ بات محسوس کر لی۔ ایک گھنٹہ بعد حصین نے اس سے پوچھا: بھائی جہینہ کیا تو پرندہ کو فال شگون کے لئے اڑایا کرتا ہے؟ جہینی نے پوچھا: وہ کیا ہوتا ہے۔ حصین نے کہا یہ عقاب کیا کہتا ہے۔ جہنی نے جواب دیا تو اسے کہاں دیکھ رہا ہے۔ حصین نے کہا وہ یہ ہے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ جہنی نے فوراً تلوار کی نوک اس کے سینے کے اوپر کے حصہ پر رکھ کر کہا۔ میں ہی زاجر اور ناحر ہوں (فال کے لئے پرندہ اڑانے والا اور ذبح کرنے والا) اور اس کی اور لخمی کی چیز اکٹھی کر وہاں سے نکل گیا۔ راستہ ہی میں قیس کے کچھ لوگ ملے ایک عورت حصین کے بارے میں پوچھتی تھی۔ جہنی نے اس سے سوال کیا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں صخرہ زوجہ حصین غطفانی ہوں۔ جہنی یہ کہتا ہی رہا

تُسائِلُ عَنْ حُصَيْنٍ كُلَّ رَكْبٍ
وعِنْدَ جُهَيْنَةَ الخبرُ اليَقِينُ

(تو حصین کے متعلق ہر سوار سے دریافت کرتی ہے حالانکہ یقینی خبر صرف جہینہ کے پاس ہے) اصمعی کا کہنا ہے کہ یہ لفظ فاء سے یعنی جفینۃ ہے۔ جفینۃ ہی وہ شخص تھا جسے مقتول کی خبر تھی۔ مقتول کے لوگ اور اس کی ایک بیٹی اسے ڈھونڈتے اور اس کے متعلق پوچھتے پھر رہے تھے۔ اسی کے بارے ایک شاعر کہتا ہے۔

تُسائِلُ عَنْ أَبِيهَا كُلَّ رَكْبٍ
وعِنْدَ جُفَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِينُ

(وہ اپنے باپ کے متعلق ہر سوار سے دریافت کرتی، حالانکہ یقینی خبر صرف جفینہ کے پاس ہے)

❁ أَجْوَدُ مِنْ حَاتِمٍ: حاتم سے زیادہ فیاض (جو سخی، بہادر اور شاعر تھا)

❁ إِنَّ الجَوادَ قَدْ يَعْثُرُ: اصیل گھوڑا بھی کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے (اچھے کام کرنے والے کے بارے میں ہے جس سے غلطی ہو جائے)

❁ إِنَّ الجوادَ عينُه فِرارُه: اصیل گھوڑے کی آنکھ ہی دانت دیکھ کر عمر کا اندازہ کرنا ہے۔ (فرار جانور کی عمر جاننے کے لئے اس کی عمر دیکھنا کے معنی میں ہے۔ اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن پر دلالت کرتا ہو اور اس وجہ سے اس کو جانچنے کی ضرورت نہ رہے)

❁ لِكُلِّ جَوادٍ كَبْوَةٌ: ہر اصیل گھوڑے کو بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے۔

❁ جَاوِرْ مَلِكاً أَوْ بَحْراً: بادشاہ کے پڑوس میں رہ یا سمندر کے (زندگی کی خوش حالی اور فراخی اہل ثروت سے طلب کرنے کے بارے میں بولا جاتا ہے)

❁ كَمُجِيرِ أُمِّ عَامِرٍ: بجو کو پناہ دینے والے کی طرح (کچھ لوگ شکار کے لئے نکلے انہیں راستہ میں بجو (ام عامر) ملا۔ انہیں اس کا تعاقب کیا۔ بجو نے ایک دیہاتی عرب کے خیمہ کو دیکھا تو اس میں گھس گیا۔ دیہاتی نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جب تک تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ شکاری اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دیہاتی نے بجو کو دودھ دیا، پانی پلایا، بجو کی جان میں جان آئی اور اس نے آرام کیا پھر جب اس نے دیکھا کہ دیہاتی سو رہا ہے تو اس نے دیہاتی پر چھلانگ لگا کر اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور اس کا خون پیا۔ اور وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں جب دیہاتی کا چچا زاد آیا اور دیکھا کہ اس کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے بجو اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو بجو کے نقش قدم پر پیچھا کرتا ہوا چل پڑا اور اسے جا لیا اور قتل کر ڈالا۔ اور یہ شعر کہا

وَمَنْ يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ مَعَ غَيْرِ اَهْلِهِ
يُلاقِي الَّذِى لاقَى مُجِيرُ اُمِّ عَامِرٍ

(جو کوئی نااہل کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو وہی جزا ملتی ہے جو ام عامر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کو پناہ دینے والے کو ملی) ہمارے ہاں ''سانپ کو دودھ پلانا'' اس حکیمانہ قول کا متبادل ہے)

❁ كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ: اس شخص کی طرح جو تپتی ہوئی زمین سے بھاگ کر آگ کی پناہ طلب کرے (رمضا گرم اور تپتی ہوئی زمین کے معنی میں ہے۔ اور یہ مثل اس شعر کا ایک مصرع ہے۔

الْمُسْتَجِيرُ بِعَمْرٍو عِنْدَ كُرْبَتِهِ
كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ

(''مصیبت کے وقت عمرو سے پناہ کا طالب گرم زمین سے بھاگ کر آگ کی پناہ لینے والے کی طرح ہے۔'' ہمارے ہاں ''چولہے سے نکل کر بھاڑ میں گرنا'')

❁ الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ: یہ عربوں کے مقولہ الرفیق قبل الطریق کی طرح ہے۔ یعنی گھر خریدنے سے قبل پڑوسی کے بارے میں پوچھ لینا چاہئے۔

❁ جَارُكَ الْأَدْنَى لَا يَغُلُّكَ الْأَقْصَى: قریب ترین پڑوسی کی حفاظت کرے گا تو دور ترین پڑوسی تجھ پر اختیار حاصل نہیں کر سکے گا۔

❁ جَاوَزَ الْحِزَامُ الطُّبْيَيْنِ: تنگ پستانوں سے بھی متجاوز ہو گیا (برائی اور ایذاء کے حد سے تجاوز کرنے میں مبالغہ سے کنایہ ہے۔ کیونکہ جب پستانوں تک جا پہنچے تو انتہا تک پہنچ چکا ہے تو اس سے تجاوز کرنا کیسا ہو گا۔ طبیین بمعنی سرپستان ہے)

❁ تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا: شریف عورت بھوکی رہتی مگر اپنے پستانوں کی کمائی نہیں کھاتی (یعنی دودھ پلانے والی دایہ نہیں بنتی۔ مال کمانے کے رذیل طریقہ سے بچنے کے بارے میں ہے)

❁ أَجِعْ كَلْبَكَ يَتْبَعْكَ: اپنے کتے کو بھوکا رکھ تا کہ تیرا تابع رہے (یہ مثل کمینے کے بارے میں ہے جس کو ذلیل کرو تو وہ تمہارا مطیع ہو جاتا ہے۔ ''کمینہ کو سر پر نہ چڑھاؤ'')

❁ أَجْوَعُ مِنْ كَلْبَةِ حَوْمَلٍ: حومل کی کتیا سے زیادہ بھوکا (حومل ایک عرب عورت کا نام ہے۔ وہ اپنی کتیا کو رات کے وقت باندھ دیا کرتی تھی تا کہ گھر کی رکھوالی کرے اور دن کو باہر نکال دیتی تھی تا کہ اپنا کھانا تلاش کرے۔ بہت دن جب اس طرح گزر گئے تو کتیا نے بھوک سے بیتاب ہو کر اپنی دم کھالی۔ تو یہ واقع ضرب المثل بن گیا۔

❁ أَجْوَعُ مِنْ ذُؤَالَةَ او أَجْوَعُ مِنْ ذِئْبٍ: بھیڑیے سے زیادہ بھوکا (ذؤالۃ بھیڑیے کا ایک خاص نام ہے۔ کہتے ہیں کہ بھیڑیے کے لئے کوئی نہ کوئی چیز ضروری ہے، جسے وہ اپنے پیٹ میں ڈالتا رہے۔ گویا وہ ہمیشہ بھوکا ہوتا ہے۔ بھیڑیے کا پیٹ ہڈی پگھلا دیتا ہے۔ دشمن کو بددعاء دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ رَمَاهُ اللّٰهُ بِدَاءِ الذِّئْبِ خدا اسے بھیڑیے کی بیماری (بھوک) میں مبتلا کرے)

❁ أَجْوَعُ مِنْ قُرَادٍ: چیچڑی سے زیادہ بھوکا (کہتے ہیں چیچڑی ایک سال اپنی پیٹھ اور ایک سال اپنا پیٹ زمین سے چمٹائے رکھتی ہے اور کچھ نہیں کھاتی۔ اونٹوں کو دور سے دیکھ کر ان کی طرف چلی آتی ہے

اونٹوں کے چور چیچڑی کے متحرک ہونے سے اونٹوں کا سراغ پالیتے ہیں اور انہیں لیجانے کی تیاری کر لیتے ہیں اور جب وہ قریب آتے ہیں تو ان پر کود پڑتے ہیں۔ چیچڑی سب جانوروں سے زیادہ حساس ہے۔)

❁ مَنْ جَالَ نَالَ: جو دوڑ دھوپ کرے پالیتا ہے (ہمارے ہاں حرکت میں برکت ہے)

❁ أَجْوَلُ مِنْ قُطْرُبٍ: قطرب سے زیادہ گھومنے پھرنے والا (قطرب ایک چھوٹا جانور ہے رات بھر گھومتا پھرتا ہے۔ سوتا نہیں)۔

❁ جَوْلَةُ الْبَاطِلِ سَاعَةٌ وَجَوْلَةُ الْحَقِّ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ: باطل کا چکر ایک گھنٹے کا جب کہ حق کا چکر دائمی ہے۔

❁ جَاءَ بِمُطْفِئَةِ الرَّضْفِ: وہ گرم پتھر سے بھی بڑھ کر کوئی چیز لایا (رضف گرم پتھر کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ گزشتہ چیز سے بھی سخت تر کوئی چیز لایا یا ایسی مصیبت لایا جس نے پہلی مصیبت کو جلا دیا اور اس کی حرارت بجھادی۔ بڑے بڑے امور کے متعلق ہے)

❁ جَاءَ بِالطِّمِّ وَالرِّمِّ: وہ سمندر اور زمین کی تہہ کو لایا (طِمّ سمندر یا بہت پانی کو اور رِمّ زمین کی تہہ کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ تمام ظاہری اور مخفی چیزیں لایا یا بہت مال لایا اور بہت تعداد لایا)۔

❁ جَاءَ الْعِيَانُ فَأَلْوَى بِالْأَسَانِيدِ: مشاہدہ آیا اور اسناد کو لے گیا (مشاہدہ کے بعد سند بیان کرنے کی حاجت نہیں رہتی)

❁ جَاءَ بِمَا صَأَى وَصَمَتَ: وہ بولنے والا اور خاموش مال لایا (یعنی مویشی اور سونا چاندی وغیرہ)

❁ جَاءَ بِقَرْنَيْ حِمَارٍ: وہ گدھے کے سینگ لایا (یعنی جھوٹ اور باطل۔ کیونکہ گدھے کے سینگ نہیں ہوتے گویا وہ ایسی بات لیکر آیا جو ممکن نہ ہو)۔

❁ جَاءَ بِذَاتِ الرَّعْدِ وَالصَّلِيلِ: وہ گرجنے والے بادل اور آواز کے ساتھ آیا۔ (یہ خوفناک برائی لانے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ جَاءَ نَاشِرًا أُذُنَيْهِ: وہ اپنے کانوں کو پھیلا کر آیا (حریص ہو کر آیا۔ منہ پھاڑے پیٹ پھیلائے)

❁ جَاءَ نَافِشًا عِفْرِيَتَهُ: وہ اپنی کلغی پھلا کر آیا۔ (عِفْرِيَة بمعنی مرغ کی کلغی۔ مراد غضبناک ہو کر آیا)

❁ جَاءُوا عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ: وہ سب کے سب آئے (ان میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا۔ بَکْرَة لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ لہٰذا جاؤوا علی بکرتھم بھی کہا جا سکتا ہے)

❁ إِذَا جَاءَ أَجَلُ الْبَعِيرِ حَامَ حَوْلَ الْبِئْرِ: جب اونٹ کی موت آتی ہے تو کنویں کے گرد گھومتا ہے۔ (ہمارے ہاں: جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے)

❁ إِذَا جَاءَ الْحَيْنُ حَارَتِ الْعَيْنُ: جب موت آتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے (حَیْن بمعنی اجل و ہلاکت ہے)

❁ إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ عَشِيَ الْبَصَرُ: جب قضا آئے تو آنکھوں پر پردے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

پڑ جاتے ہیں۔)

❁ جَاؤُوا قَضًّا وقَضِيضًا: چھوٹے بڑے سب آئے۔ (قض پتھروں کے بڑے بڑے اور قضیض چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے۔ اسی معنی میں جَاءَ القوم قَضُّهم و قَضِيضُهم مستعمل ہے)

❁ جِيفَةٌ لاتُعَكِّرُ بحرًا: ایک مردار سمندر کو گدلا نہیں کر سکتا۔

ح

❁ مَنْ أَحَبَّ شيئًا أكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ: جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہو اس کا بہت ذکر کیا کرتا ہے۔

❁ لا أُحِبُّ دَمِي فِي طَسْتِ ذَهَب: مجھے سونے کے طشت میں اپنا خون پسند نہیں۔ (موت کے بعد شان وشوکت کس کام کی)۔

❁ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي ويُصِمُّ: کسی چیز سے تمہاری محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ (یعنی تم سے اس کی برائیاں چھپالیتی ہے اور اس کے بارے میں ملامت سننے نہیں دیتی۔ شاعر نے یہی مفہوم اخذ کر کے کہا ہے۔

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيْلَةٌ
وَلٰكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي المُسَاوِيَا

(پسندیدگی کی آنکھ ہر عیب سے بند ہوتی ہے مگر ناراضگی کی آنکھ برائیاں ظاہر کر دیتی ہے)

❁ الحُبُّ أَعْمَى: محبت اندھی ہوتی ہے۔

❁ لَيْسَ فِي الحُبِّ مَشُوْرَةٌ: محبت میں مشورہ نہیں کیا جاتا۔

❁ أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَامُنِعَا: جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے وہ اس کی پسندیدہ ترین شئے بن جاتی ہے۔ اسی مفہوم پر شاعر کہتا ہے:

رَأَيْتُ النَّفْسَ تَكْرَهُ مَالَدَيْهَا
وتَطْلُبُ كُلَّ مُمْتَنِعٍ عليها

(میں نے نفس کو دیکھا ہے کہ اپنے پاس موجود چیز کو پسند نہیں کرتا بلکہ ہر وہ چیز مانگتا ہے جس کا حصول مشکل ہو)

❁ مِنَ الحَبَّةِ تَنْشَأُ الشَّجَرَةُ: دانہ سے درخت پیدا ہوتا ہے (یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں)

❁ كُلُّ حَبَّةٍ لها كَيَّالٌ: ہر دانہ کیلئے کوئی نہ کوئی ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے۔

❁ حَبْلُكِ على غارِبِكِ: تیری رسی تیرے کوہان پر ہے۔ غارب کا معنی کوہان کا بالائی حصہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ تو جہاں جانا چاہے چلی جا۔ اصل اس مثل کی یہ ہے کہ جب اونٹنی چر رہی ہو تو مہار اس کے کوہان پر ڈال دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ کیونکہ جب اونٹنی مہار دیکھ لے تو اسے کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جسے چھوڑ دیا جائے کہ جہاں چاہے جائے اور جو چاہے کرے۔)

❁ رُبَّ حَثِيثٍ مَكِيثٌ: بہت سے جلدی کرنے والے دیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ (مکث سے ماکث و مَكِيث دیر کرنے والے کے معنی میں ہے۔ یعنی کبھی انسان کی جلدی دیر کا سبب بن جاتی ہے)۔

❁ مَافِي الحَجَرِ مَبْغًى: پتھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جسے طلب کیا جائے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ پتھر میں دھری کیا ہے۔ بخل کے ثبوت اور خیر کی قلت کے بارے میں بولا جاتا ہے۔)

❁ المُحَاجَزَةُ قَبْلَ المُنَاجَزَةِ: آڑ میں آنا لڑائی سے پہلے ہونا چاہئے۔ (یعنی شر واقع ہونے سے پہلے رک جا اور جس سے مقابلہ کی طاقت نہ ہو اس سے راہ فرار اختیار کر۔ محاجزہ بمعنی حجز بین الشیئین (دو چیزوں کے درمیان آجانا) اور مناجزۃ لڑائی کی سرعت کے معنی میں ہے۔)

❁ إِنَّ الحَدِيدَ بالحَدِيدِ يُفْلَح: لوہے کو لوہے سے ہی چیرا جاتا ہے۔ (فِلْح بمعنی پھاڑنا، چیرنا۔ اس سے فلاح حرّاث کے لئے آتا ہے، جو زمین پھاڑتا ہے۔ یعنی شدید معاملہ میں اس جیسے معاملہ سے مدد لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے: (لوہے کو لوہا کاٹتا ہے)

❁ ويَحْدِثُ مِنْ بَعْضِ الأُمُورِ أُمُورٌ: بعض باتوں سے باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ (ہم کہتے ہیں: بات سے بات نکلتی ہے یا بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے)

❁ حَدِّثْ عَنْ مَعْنٍ ولا حَرَجَ: معن سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں (معن بن زائدۃ بن عبداللہ الشیبانی عرب کے زیادہ فیاض لوگوں میں سے تھا۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو معاملہ کا فراخ ہو)

❁ حَدِّثْ عَنِ البَحْرِ ولاحَرَجَ: سمندر کی بات کہو، کوئی حرج نہیں (معلومات میں اضافہ ہوگا)

❁ حَدِيثُ خُرَافَةَ: خرافہ کی بات (خرافہ ایک شخص کا نام ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جن ایک مدت تک اسے حیران و مبہوت کرتے رہے۔ جب وہ قوم کے پاس آیا تو اس نے اپنے مشاہدات سے مطلع کیا۔ لیکن قوم نے اس کی تکذیب کی، حتیٰ کہ وہ ہر ناممکن الوقوع بات کو حدیث خرافہ کہنے لگے۔

❁ الحَدِيثُ ذُوشُجُون: بات کے مختلف راستے ہیں (ذوشجون کا معنی ذوطُرُوف (راستوں والا) ہے۔ شُجون شجن کی جمع ہے۔ جس کا معنی وادی کا راستہ ہے، بعض کے نزدیک وادی کے بالائی حصہ سے گزرنے والا راستہ یا یہ شَجَن کی جمع ہے، جو لپٹی ہوئی شاخ اور ہر چیز کے شعبہ کے معنی میں ہے۔ لہٰذا الحدیث ذوشجون ایسی بات ہے جس سے اور باتیں نکلتی چلی جائیں۔ اور ایسی باتیں بھی ہونے لگیں جو مقصود نہ ہوں۔ اس مفہوم کو عام لوگ یوں بھی ادا کرتے ہیں۔

❁ الحديثُ يجرّ بَعْضُهُ بعضاً: گفتگو کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو کھینچتا ہے۔)

❁ كَالحَادِي ولَيْسَ لَهُ بَعِيرٌ: اس ہانکنے والے کی طرح جس کے پاس کوئی اونٹ ہی نہ ہو۔ (حدا اونٹوں کو پیچھے سے ہانکنا کے معنی میں ہے جبکہ قَوْدٌ آگے سے ہانکنے کے معنی میں۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے جو ایسی چیز پر شیخی بگھارے جو اس کی ملکیت نہ ہو یا اس شخص کے بارے میں جو ان باتوں کو اپنی طرف منسوب کرے جنہیں وہ اچھی طرح جانتا ہی نہ ہو)

❁ اَلحَذَرُ اَشَدُّ مِنَ الوقیعة: احتیاط اس چیز سے زیادہ سخت ہے جس میں گرنے سے بچا جائے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے۔ جو کسی چیز کو بہت عظیم سمجھتا ہو اور جب وہ کرنے لگے تو وہ اس کے گمان سے کہیں زیادہ آسان نکلے)

❁ اِنَّ الحَذَرَ لَایَدْفَعُ المَقْدُوْرَ: احتیاط مقدر کو دور نہیں کر سکتی۔ (تقدیر کے آگے تدبیر کا بس نہیں چلتا)

❁ اَحْذَرُ مِنْ قِرِلّی: قرلی سے زیادہ محتاط (قرلی ایک بہت محتاط آبی پرندہ ہے۔ پانی پر اڑتے اڑتے ایک آنکھ تو پانی کی گہرائی میں شکار کی طمع میں لگی ہوتی ہے اور دوسری سے ڈرتے ڈرتے فضا میں دیکھتا رہتا ہے۔ جب پانی میں کوئی مچھلی وغیرہ نظر آتی ہے جسے وہ اٹھا سکے تو تیر کی طرح اس پر جھپٹتا ہے۔ اور اگر فضا میں کوئی شکاری پرندہ دیکھ لے، تو زمین میں دور چلا جاتا ہے)

❁ اَحْذَرُ مِنْ غُرابٍ: کوے سے زیادہ چوکنا۔

❁ اَحْذَرُ مِنْ ذِئبٍ: بھیڑیے سے زیادہ چالاک۔ (عربوں کا خیال ہے کہ بھیڑیا اس قدر چالاک ہے کہ سوتے ہوئے بھی باری باری ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے)

❁ کُلَّ الحِذاءِ یَحْتَذِی الحَافِی الوَقِعُ: دکھتے ننگے پاؤں والا ہر قسم کا جوتا پہن لیتا ہے۔ (وَقِعَ یَوْقَعُ وَقَعًا فهو وَقِعٌ اذا حفی فاشتکی لحم قدمه من غلظ الارض و الحجارة: ننگے پاؤں ہونا اور پتھر یا سخت زمین پر چلنے کی وجہ سے پاؤں کے گوشت میں درد ہو جانا۔ وقع اس سے صفت کا صیغہ ہے۔ یہ مثل ایسے مصیبت زدہ کیلئے بولی جاتی ہے جو معمولی چیز پر قناعت کر لے)

❁ اَلحُرُّ حُرٌّ وَاِنْ مَسَّهُ الضُّرُّ: شریف شریف ہی رہتا ہے خواہ تنگی آ جائے۔

❁ حِرَّةٌ تَحْتَ قِرَّةٍ: ٹھنڈک کے نیچے پیاس (حِرَّة بمعنی پیاس حرارت سے ماخوذ ہے اور قِرَّة بمعنی ٹھنڈک کے کہتے ہیں ٹھنڈے دن کی پیاس بہت سخت ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کینہ اور غیظ و غضب چھپا کر رکھے اور خلوص کا اظہار کرے)

❁ اَحَرُّ مِنْ نارِ الغَضَی: غضی کی لکڑی کی آگ سے زیادہ گرم (نار الغضی گرم ترین آگ ہے۔ سب لکڑیوں میں سے غضی کی لکڑی صرف جلانے کے کام آتی ہے۔ گویا۔ یہ لکڑی آگ کے لئے ہی پیدا کی گئی ہے)

❁ اَحَرُّ مِنَ الجَمَرِ: انگارے سے زیادہ گرم۔

❁ اَحَرُّ مِنَ النار: آگ سے زیادہ گرم۔

❁ اَحَرُّ مِنَ المِرْجَلِ: ہنڈیا سے زیادہ گرم۔

❁ اَحَرُّ مِنْ دَمْعِ المقلات: بچے کی سوگوار ماں کے آنسوؤں سے زیادہ گرم (مقلات اس عورت کو کہتے ہیں جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ چنانچہ غم کی وجہ سے اس کے آنسو ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غم کا آنسو گرم اور خوشی کا آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے)

❁ اَلحَرْبُ خُدعَةٌ: لڑائی دھوکا ہے (یعنی جنگ میں جوان دھوکا کھا جاتے ہیں)

❁ اَلحَرْبُ سِجَال: لڑائی میں پانسہ پلٹتا رہتا ہے۔ (کبھی ایک کو غلبہ کبھی دوسرے کو۔ سِجال اور مُسَاجَلَة کا معنی ویسا ہی کرنا جیسا ساتھی کرتے ہیں)

❁ اَلحَرْبُ غَشُوْمٌ: جنگ ظالم ہے۔ (جنگ کی لپیٹ میں وہ بھی آ جاتا ہے جس کا کوئی جرم نہ ہو اور کبھی مجرم سلامت رہتا ہے)

❁ اَحْرَزَ امْرأً اَجَلُهُ: آدمی کو اس کی موت نے ذخیرہ کر لیا (کہا جاتا ہے کہ یہ عربوں کی سب سے سچی ضرب المثل ہے)

❁ اَحْرَسُ مِنْ كَلْبٍ: کتے سے زیادہ رکھوالا

❁ اَلحِرْصُ قائِدُ الحِرمان: لالچ محرومی کا پیش خیمہ ہے۔ (جیسے کہا جاتا ہے الحریص محروم (لالچی محروم رہتا ہے)

❁ اَحْرَصُ مِنْ نَمْلَةٍ: چیونٹی سے زیادہ حریص۔

❁ لَیْسَ الحریصُ بزائِدٍ فی رِزْقِهٖ: حریص اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتا۔

❁ اِنَّهُ لَیُحَرِّقُ عَلَیَّ الْاُرَّمَ: وہ مجھ پر دانت پیتا ہے (ارم داڑھوں کو کہا جاتا ہے۔ مراد اس کا غیظ و غضب مجھ پر شدید ہے)

❁ حَرِّكْ لها حُوارَهَا تَحِنَّ: اونٹنی کے بچے کو حرکت دیگا تو وہ پکارے گی (حوار اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں۔ دودھ چھڑا لیا جائے تو بچہ کو فصیل کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کو غم یاد دلاؤ تو وہ حرکت میں آئے گا)

❁ اَلحَرَكَةُ بَرَكَةٌ: حرکت میں برکت ہے۔

❁ اَلحَزْمُ حِفْظُ مَاوُلِّیتَ و ترکُ ماکُفِیتَ: احتیاط یہ ہے کہ تو اس چیز کو محفوظ رکھے جو تیرے سپرد کی گئی ہے اور اس چیز کو چھوڑ دے جس کی ضرورت نہیں۔

❁ اَلحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ بالناس: احتیاط لوگوں کے ساتھ بدگمانی ہے۔

❁ اَحْزَمُ مِنَ الحِرْبَاء: گرگٹ سے زیادہ محتاط (کیونکہ جب گرگٹ درخت پر چڑھتا ہے تو جب تک دوسری ٹہنی نہ پکڑ لے پہلی کو نہیں چھوڑتا۔ حرباء میں الف تانیث کا نہیں بلکہ الحاقی ہے جیسے علباء میں)

❁ لَایَحْزُنْكَ دَمٌ هَرَاقَهُ اَهْلُهُ: اس خون پر غم نہ کر جو اس کے اہل ہی نے بہایا ہے۔

❁ یَحْسَبُ المَمْطُوْرُ اَنَّ كُلًّا مُطِرَ: بارش میں بھیگا ہوا سمجھتا ہے کہ ہر شخص بارش میں بھیگا ہوگا۔

❁ لاحَسَبَ كَالتَّوَاضُعِ: تواضع جیسی کوئی شرافت نہیں۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ حَسْبُكَ مِنْ غِنًى شِبْعٌ وَرِيٌّ: شکم سیری اور سیرابی تیرے لئے کافی دولتمندی ہے (یعنی اتنے مال پر قناعت کر جس سے تو پیٹ بھر کر کھا سکے اور پیاس بجھا سکے اور باقی جو بچے وہ سخاوت کر دے۔ یہ مثل امری القیس کی ہے۔

❁ حَسْبُكَ مِنْ شَرٍّ سَمَاعُهُ: شر کا سن لینا ہی تمہارے لئے کافی ہے۔ (اتنے پر اکتفاء کر خود دیکھنے کا ارادہ نہ کر)

❁ اَلْحَسَدُ مَطِيَّةُ التَّعَبِ: حسد مشقت کی سواری ہے۔

❁ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ طَابَ عَيْشُهُ: نیک گمان کرنے والا خوش گزران ہوتا ہے۔

❁ حَسَنٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ ماتَوَدّ: ہر آنکھ میں اس کا محبوب ہی اچھا ہے۔ (یہ عربوں کے اس قول کے قریب ہے جس میں کہا گیا ہے۔ حُبُّكَ الشيَ يُعْمِي وَيُصِمّ اس کا مفہوم شروع میں ملاحظہ ہو)

❁ حُسْنُ الظَّنِّ وَرْطَةٌ: حسن ظن گہرا گڑھا ہے (ورطۃ کا معنی ہلاکت، ایسا معاملہ جس سے چھٹکارا مشکل ہو۔ یہ عربوں کے اس قول کے قریب ہے کہ الحَزْمُ سوءُ الظن بالناس (احتیاط لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے)

❁ لِكُلِّ حَسَنٍ عَائِبٌ: ہر اچھے کو عیب دار بنانے والا بھی ہوتا ہے۔

❁ الحَسَنَةُ بين السَّيِّئَتَيْن: نیکی دو برائیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ (درمیانے کام کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا کے معنی میں ہے۔ (یعنی بہترین کام وہ ہیں جو اعتدال سے کئے جائیں)

❁ أَحْسَنُ مِنَ الدُّنْيَا المُقْبِلَة: آنے والی دنیا سے زیادہ حسین۔

❁ أَحْسَنُ مِنَ النَّارِ: آگ سے زیادہ خوبصورت۔

❁ أَحْسَنُ مِنَ الطَّاوُوسِ: مور سے زیادہ خوشنما۔

❁ أَحْسَنُ مِنْ زَمَنِ البرامكة: برمکیوں کے زمانہ سے زیادہ خوبصورت۔

❁ أَحْسَنُ مِنَ الشمس والقمرِ: آفتاب و ماہتاب سے زیادہ خوبصورت۔

❁ الإِحْسَانُ يَقْطَعُ اللِّسَان: احسان زبان بند کر دیتا ہے۔

❁ أَحُشُّكَ وَتَرُوثُنِي: میں تو تجھے گھاس چراتا ہوں اور تو مجھ پر گوبر کرتا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو احسان فراموشی کرے)

❁ أَحَشَفًا وَسوءَ كِيلَة: کھجور بھی ردی اور پیمانہ بھی کم۔ (الكِيلَة كيل سے اسم نوع ہے۔ حَشَف بمعنی ردی کھجور۔ یعنی تو ردی کھجور اور کم ناپنے جیسی دو برائیوں کا مرتکب ہے۔ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس میں دو ناپسندیدہ خصلتیں ہوں یا دو طرف سے ظلم کرے)۔

❁ الحَصَاةُ مِنَ الجَبَل: کنکری پہاڑ کا جزء ہے۔ (کند ہم جنس با ہم جنس پرواز)

❁ كُلٌّ يَحْتَطِبُ فِي حَبْلِهِ: ہر ایک اپنی رسی میں ہی لکڑیاں جمع کرتا ہے۔

❁ كَحَاطِبِ لَيْلٍ: رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح (اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو ہر چیز جمع کرتا چلا جائے اچھی بری نہ دیکھے۔ حاطِب لکڑیاں جمع کرنے والے کو کہتے ہیں)

❁ حَظٌّ فِي السَّحَابِ وعَقْلٌ فِي التُّرَاب: نصیب بادلوں میں اور عقل مٹی میں۔

❁ حَظٌّ جَزِيلٌ بَيْنَ شِدْقَيْ ضَيْغَم: بڑا حصہ شیر کے جبڑوں میں۔ (اس پسندیدہ چیز کیلئے بولا جاتا ہے، جو نا قابل حصول ہو)

❁ إِلَّا حَظِيَّةً فَلَا أَلِيَّةً: عزت و رتبہ والی نہیں تو بھی کوتاہی کرنے والی نہ بن۔ (حَظِيَّة حُظْوَة سے مشتق ہے بمعنی مرتبہ، عزت اور أَلِيَّة الّو سے لیا گیا ہے۔ بمعنی تقصیر (کوتاہی) مفہوم یہ ہے کہ اگر تو معزز و صاحب رتبہ نہ ہو تو کوتاہی کرنے والی بھی نہ ہو۔ اس عورت کے متعلق کہا گیا ہے جو اپنے خاوند کو محبوب نہ ہو تو بھی اسے چاہئے کہ اس سے محبت کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ مدارات یہ ہے کہ لوگوں کی مراوات کر کے اپنا مطلب نکالنا چاہئے)

❁ مَنْ حَفَرَ حَفِيرًا لأخِيهِ كَانَ حتفُهُ فيه: جو کوئی اپنے بھائی کیلئے گڑھا کھودتا ہے۔ اس کی موت اسی گڑھے میں ہوتی ہے۔

❁ مَنْ حَفَرَ حُفْرَةً وَقَعَ فيها: جو کوئی گڑھا کھودے خود اس میں گر جاتا ہے۔ مَنْ حَفَرَ مَغْوَاةً...... بھی منقول ہے۔ مَغْوَاة اس گڑھے کو کہتے ہیں جو بھیڑیے اور بجو کیلئے کھودا جاتا تھا۔ ہر جائے ہلاکت کو بھی مَغْوَاة کہا جاتا ہے

❁ تحفظُ أخاكَ الاَمِنَ نفسه: تو اپنے بھائی کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کے نفس سے نہیں۔ (مفہوم یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی لوگوں سے حفاظت کر سکتا ہے اگر وہ اس کے خلاف برا ارادہ رکھتے ہوں لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، تو تو اس سے محفوظ رکھنے کے لئے کچھ نہیں کر سکتا)

❁ حَافِظْ عَلَى الصَّدِيقِ وَلَوْ فِي الحَرِيقِ: دوست کی حفاظت کر خواہ آگ میں کودنا پڑے۔

❁ إِحْفَظْ مَا فِي الوِعَاءِ بِشَدِّ الوِكَاء: جو کچھ برتن میں ہے اس کی حفاظت برتن کا منہ باندھ کر کر۔ (وکاء مشک وغیرہ کا بندھن احتیاط برتنے پر اکسانے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أَحْفَظُ مِنَ الأرضِ: زمین سے زیادہ حفاظت کرنے والا۔

❁ الحَفِيظَةُ تُحَلِّلُ الأحقاد: غیرت دشمنیاں ختم کر دیتی ہے۔ (حفیظۃ بمعنی غضب و غیرت اس کی جمع حَفَائِظ ہے، مفہوم یہ ہے کہ کسی دوست یا رشتہ دار پر ظلم ہوتے دیکھ کر غیرت جوش مارتی ہے۔ خواہ دل میں اس سے کینہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس معنی کا حامل عربوں کا یہ مقولہ ہے: عِنْدَ الشدائِد تَذْهَبُ الأحْقَادُ (مصائب کے وقت دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں)

❁ حَقٌّ يَضُرُّ خَيْرٌ من بَاطِلٍ يَسُرُّ: ضرر رساں حق مسرت بخش باطل

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سے بہتر ہے۔

❁ اَلْحَقُّ خَیْرُ مَایُقَال: کہنے کے لائق باتوں میں بہترین حق بات ہے۔

❁ اَلْحَقُّ مَغْضَبَةٌ: حق باعث غضب ہے۔ (ایسے شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جس سے کسی معاملہ کے بارے میں سچ بولا جائے تو اسے غصہ آجائے)

❁ اَلْحَقُّ اَبْلَجُ وَالْبَاطِلُ لَجْلَجٌ: حق واضح اور روشن ہوتا ہے، جبکہ باطل گڈمڈ۔ (اَبْلَج واضح اور روشن کے معنی میں ہے جبکہ لجلج گڈمڈ، الجھا ہوا)

❁ هٰذَا اَحَقُّ مَنْزِلٍ بِتَرْكٍ: یہ چھوڑنے کے لئے نہایت مناسب مقام ہے (ہر ایسی چیز کے متعلق کہا جاتا ہے جو چھوڑ دینے کی مستحق ہو جیسے مرد، پڑوس وغیرہ)

❁ اَحْقَدُ مِنْ جَمَلٍ: اونٹ سے زیادہ کینہ توز (ہمارے ہاں اس کا متبادل شتر کینہ کا لفظ ہے)

❁ مَنْ حَقَرَ حَرَمَ: جس نے حقیر جانا محروم ہوا۔ (یعنی جسے حقیر جانے گا اسے اس کا حق نہ دے گا)

❁ اَحْقَرُ مِنَ التُّرَابِ: مٹی سے زیادہ حقیر۔

❁ مَاحَكَّ جِلْدَكَ مِثْلُ ظِفْرِكَ: تیری کھال کو تیرے ناخن کی طرح کوئی چیز نہیں کھجلا سکتی۔ (تجھ جیسا تیری ضرورت کو کوئی اور پورا نہیں کرتا دوسروں سے زیادہ اپنے پر اعتماد پر اکسانے کے بارے میں بولا جاتا ہے)

❁ اِذَا حَكَكْتُ قَرْحَةً اَدْمَیْتُهَا: جب کسی زخم کو کھجاتا ہوں اس سے خون نکال لیتا ہوں۔ (یعنی جب کسی مقصد کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے انتہاء تک پہنچا کر چھوڑتا ہوں۔

❁ تَحَكَّكَتِ الْعَقْرَبُ بِالْاَفْعٰی: بچھو سانپ کو تکلیف دینے پر تیار ہوا (یہ مثل اس شخص کے حق میں بولی جاتی ہے جو اپنے سے زیادہ طاقت ور سے مقابلہ کرے)

❁ اَحْكَمُ مِنْ لُقْمَانَ: لقمان سے زیادہ دانا۔

❁ اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ: (حکمت مؤمن کی گمشدہ چیز ہے۔ (یعنی مومن جہاں سے ملے دانایاں اکٹھی کرنے کا بڑا خواہاں رہتا ہے اور انہیں حاصل کرلیتا ہے)

❁ اَحْكٰی مِنْ قِرْدٍ: بندر سے زیادہ نقل کرنے والا (کیونکہ بندر انسان کے افعال کی نقل کرتا ہے سوائے گویائی کے)

❁ اِذَا حَلَّتِ الْمَقَادِیْرُ بَطَلَتِ التَّدَابِیْر: تقدیر کے آگے تمام تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔

❁ اَحَلُّ مِنْ لَبَنِ الْاُمِّ: ماں کے دودھ سے زیادہ حلال۔

❁ حَلَبَ الدَّهْرَ اَشْطُرَهٗ: اس نے زمانہ کے تھنوں کو دوہا ہے۔ یہ حلب أشطرَ الناقة سے مستعار لیا گیا ہے۔ اونٹنی کے تھن آگے اور دو پیچھے ہوتے ہیں۔ انہیں خِلْفَین کہا جاتا ہے۔ ہر دو خلفین کو شطر کہتے ہیں۔ اَشْطُرَهٗ کا نصب بدل کی وجہ سے ہے یعنی کہنے والے نے حلب اشطرَ الدهر کہا ہے۔ مفہوم: اس نے زمانہ کے دونوں شطروں کو آزمایا ہے۔ یعنی خیر کو بھی اور شر کو بھی اور زمانے کے سرد و گرم دیکھے ہیں۔) اردو میں وہ سرد گرم چشیدہ ہے، جاندیدہ ہے۔ وغیرہ)

❁ حَلَبْتُهَا بِالسَّاعِدِ الْاَشَدِّ: میں نے اسے طاقت ور کلائی سے دوہا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو طاقت سے اپنا حق لے۔ ساعد بمعنی پہنچا، کلائی، بازو)

❁ اُحْلُبْ حَلَبًا لَكَ شَطْرُهٗ: اچھی طرح دوہ، تیرا بھی حصہ ہے۔ (طلب اور مطلوب میں مساوات پر اکسانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ نیز ایسے شخص کے متعلق بھی کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی کی کسی معاملہ میں مدد کرے جس میں اس کا بھی حصہ ہو)

❁ هٰذَا حَلَبٌ لَكَ شَطْرُهٗ: اس دوہنے میں تیرا بھی حصہ ہے۔ (ایسے عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے جس میں فریقین کا نفع ہو۔

❁ حَلُوْبَةٌ تُثْمِلُ وَلَا تُصَرِّحُ: ایسی دودھ دینے والی اونٹنی جو جھاگ والا دودھ دیتی ہے، خالص دودھ نہیں دیتی۔ (حلوبة دودھیل اونٹنی۔ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بکثرت وعدے اور وعید کرے، لیکن ان کو پورا نہ کرے)

❁ لَسْتَ مِنْ اَحْلَاسِهَا: تو اس کے ساتھیوں سے نہیں ہے۔ (احلاس الخیل گھوڑوں والے جو گھوڑوں پر ہی سوار رہتے ہیں)

❁ حَلَّقَتْ بِهٖ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ: عنقاء مغرب نے اس کا احاطہ کرلیا ہے (ایسی چیز کے لئے کہا جاتا ہے جس کے ملنے کی امید نہ ہو یعنی جو مایوس کن ہو۔ عنقاء ایک بڑے پرندے کو کہتے ہیں جو نام کے لحاظ سے تو معروف ہے، مگر جسم کے لحاظ سے انجانا ہے۔ اغرب کا معنی انجانا ہونا ہے۔ اس پرندہ کو مغرب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے دور رہتا ہے۔ اس کی صفت مونث اس لئے نہیں لائی گئی کہ عنقاء ایسا اسم ہے جو مذکر و مونث دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ صفت کے طور پر عنقاءُ مغربٌ اور اضافت کی صورت میں عنقاءُ مغربٍ کہا جاتا ہے)

❁ هُمْ كَالْحَلْقَةِ الْمُفْرَغَةِ لَا يُدْرٰى اَيْنَ طَرَفَاهَا: وہ ڈھلے ہوئے حلقہ کی طرح ہیں معلوم نہیں اس کے دونوں سرے کہاں ہیں۔ (یہ فاطمہ بنت الخرشب الانماریہ زیاد العبسی کی بیوی کا مقولہ ہے۔ اس کے سات بیٹے تھے اور شرفائے عرب میں شمار ہوتے تھے۔ ایک دن اس سے پوچھا گیا۔ آپ کو کونسا بیٹا سب سے افضل ہے؟ تو اس نے کہا: ربیع نہیں بلکہ عمار، نہیں نہیں بلکہ فلاں، پھر بولی: میں انہیں گم کروں اگر مجھے معلوم ہو کہ ان میں سے کون سب سے افضل ہے۔ **هم كالحلقة المفرغة لا يُدْرٰى اَيْنَ طرفاها**)

❁ حِلْمِیْ اَصَمُّ وَاُذُنِیْ غَیْرُ صَمَّاءَ: میرا حلم بہرا ہے کان بہرے نہیں (یعنی میں اپنی بردباری کی وجہ سے فحش کلام سے احتراز کرتا ہوں

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اگر چہ کانوں سے سن لیتا ہوں۔ یہ صابر اور بردبار کی مثال ہے)

❁ أَحْلَمُ مِنَ الأَحْنَف: احنف سے زیادہ بردبار۔ (یہ احنف بن قیس کی طرف اشارہ ہے جو بنی تمیم سے تھا اور بردبار کہلاتا اور تسلیم کیا جاتا تھا)

❁ الحَلِيمُ مَطِيَّةُ الجَهُولِ: بردبار جاہل کی سواری ہے (اس کا مطلب ہے کہ بردبار شخص جاہل کی جہالت برداشت کر لیتا ہے اس سے انتقام نہیں لیتا)۔

❁ لاتَكُنْ حُلْوًا فتُسْتَرَطَ ولا مُرًّا فتُعْقَى: میٹھا نہ بن کہ نگل لیا جائے اور نہ کڑوا کہ اگل دیا جائے (استراط، نگلنا، اعقاء تلخی کی وجہ سے اگل دینا۔ مراد یہ ہے کہ کڑواہٹ میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ پھینک دیئے جاؤ اور مٹھاس میں حد سے نہ بڑھو کہ نگل لیئے جاؤ۔ یعنی صورتوں میں میانہ روی اختیار کرو)

❁ أَحْلَى مِنَ العسل: شہد سے زیادہ میٹھا۔

❁ أَحْلَى مِنْ نَيْلِ المُنَى: حصول مراد سے زیادہ شیریں۔

❁ أَحْلَى مِنْ حياةٍ مُعَادَة: دوبارہ زندگی سے زیادہ شیریں۔

❁ اَلْحَمْدُ مَغْنَمٌ والمَذَمَّةُ مَغْرَمٌ: تعریف مال غنیمت ہے اور مذمت تاوان (تعریف کے اکتساب اور اس کے غیر سے اجتناب پر اکسانے کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ فائدہ پہنچا کر تعریف کرانا، فائدہ حاصل کرنا غنیمت پانا ہے اور قابل مذمت کام کیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یوں وہ مال جس سے تم نے تعریف کمائی تھی جاتا نہیں رہے گا اور تمہیں برائی سے بچائے گا)

❁ كَانَ حِمارًا فَاسْتَأتَنَ: وہ گدھا تھا بعد میں گدھی بن گیا۔ (استاتن بمعنی گدھی ہو جانا ہے۔ اور ایسا ہوتا نہیں۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ قوی تھا پھر چاہا کہ کمزور ہو جائے، عزیز و غالب تھا بعد میں ذلیل ہو گیا۔

❁ أَحْمَقُ مِنْ دُغَةَ: دغہ سے زیادہ بیوقوف (دغہ جو ایک عورت کا نام تھا اتنی بیوقوف تھی کہ اپنے بیٹے کے تالو کو ہلتا دیکھا، بیٹا سوتا کم اور روتا زیادہ تھا۔ اس نے اپنی سوت سے کہا مجھے چھری دینا سوت نے چھری دیدی اسے معلوم نہ تھا کہ بچے کی ماں کیا کرنا چاہتی ہے۔ بچے کی ماں نے جا کر چھری سے اپنے بیٹے کا تالو پھاڑ کر دماغ نکال دیا۔ سوت پیچھے سے آئی اور پوچھا۔ کیا کر رہی ہو؟ بچے کی ماں نے کہا: میں نے یہ پیپ اس کے سر سے نکال دی ہے تا کہ اسے نیند آ جائے اور اب وہ سویا ہوا ہے)

❁ أَحْمَقُ من رِجْلَة: رجلہ سے زیادہ بیوقوف (رجلۃ خرفہ کے ساگ کو کہتے ہیں جو سیلابی نالوں میں اگتا ہے اور سیلاب اسے بہالے جاتا ہے)

❁ أَحْمَقُ مِنْ شَرَنْبَثَ: شرنبث سے زیادہ احمق (شرنبث کی حماقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنا مال صحرا میں دفن کیا اور بدلی کے سائے کو نشانی مقرر کیا جو اس پر آیا ہوا تھا۔ جب مال نکالنے کے لئے لوٹا، سایہ وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ چنانچہ اسے وہ جگہ نہ ملی اور یوں اس نے مال کھو دیا)

❁ أَحْمَقُ مِنْ عِجْلٍ: عجل سے زیادہ احمق (عجل بنی وائل کا ایک شخص تھا۔ اسے کہا گیا۔ تم نے اپنے گھوڑے کا کیا نام رکھا ہے؟ وہ اٹھ کر گیا اور گھوڑے کی آنکھ پھوڑ کر کہا میں نے اس کا نام اعور (کانا) رکھا ہے)

❁ أَحْمَقُ مِنْ نَعَامَة: شترمرغ سے زیادہ بیوقوف (شترمرغ غذا کی تلاش میں نکلتا ہے۔ راستہ میں کہیں کسی دوسرے شترمرغ کا انڈہ مل جائے تو اسے سینے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا انڈہ بھول جاتا ہے اور واپس نہیں آتا جس کی وجہ سے وہ انڈہ خراب ہو جاتا ہے)

❁ أَحْمَقُ مِنْ هَبَنَّقَةَ: ہبنقہ سے زیادہ احمق (ہبنقہ بنی قیس بن ثعلبہ کا ایک فرد تھا۔ اس کی ایک حماقت یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بکریاں چراتا تھا۔ موٹی بکریوں کو دوب گھاس چراتا اور کمزور بکریوں کو اس سے دور رکھتا اسے کہا گیا، تجھ پر ہلاکت ہو کیا کر رہے ہو؟ ہبنقہ نے جواب دیا میں اسے خراب نہیں کرتا جسے اللہ نے ٹھیک کیا ہے اور نہ اسے ٹھیک کرتا ہوں جسے اللہ نے خراب کیا ہے۔ ایک اور حماقت یہ ہے کہ اس نے اپنی گردن میں گھونگھوں، ہڈیوں اور ٹھیکریوں کا ایک ہار ڈالا ہوا تھا۔ اس سے اس ہار کے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا۔ یہ ہار اس لئے پہنا ہے کہ اس کے ذریعے خود کو پہچان سکوں اور بھٹکوں نہیں۔ ایک رات سوتے میں اس کے بھائی نے اس کا ہار اتار کر خود پہن لیا۔ صبح ہوئی اور ہار کو اپنے بھائی کی گردن میں پڑا دیکھا تو کہا بھائی تو تو میں ہے تو میں کون ہوں؟

❁ أَحْمَقُ مِنْ مَاضِغِ المَاءِ: پانی چبانے والے سے زیادہ احمق۔

❁ أَحْمَقُ مِنَ القابِضِ عَلَى الماء: پانی کو پکڑنے والے سے زیادہ احمق۔

❁ احمق من ناطح الماء: پانی کو سینگ مارنے والے سے زیادہ احمق۔

❁ أَحْمَقُ مِنْ لاطِمِ الأَرْضِ بِخَدَّيْهِ: اپنے رخساروں سے زمین کو تھپڑ مارنے والے سے زیادہ احمق۔

❁ أَحْمَقُ مِنْ ناطِحِ الصَّخْرِ: چٹان کو سینگ مارنے والے سے زیادہ احمق۔

❁ يَحْمِلُ التَمْرَ إِلى البَصْرة: کھجوریں بصرہ لے جاتا ہے (بصرہ تو کھجوروں کا گھر ہے۔ گویا "الٹے بانس بریلی کو" کا مصداق بنتا ہے)

❁ لا يُحَمِّلُ اللّٰهُ نَفْسًا غَيْرَ طَاقَتِهَا: اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

❁ لَمْ يَحْمِلْ خاتِمِي مثلُ خِنْصَرِي: میری چھنگلیا کی طرح کسی نے میری انگوٹھی کو برداشت نہیں کیا (جس کا کام اسی کو ساجھے)

❁ أَنَّمَا يُحْمَلُ الكَلُّ على أَهْلِ الفَضْلِ: بوجھ تو انہیں پر ڈالا جاتا ہے جو اسے اٹھا سکیں۔ (کل کا معنی بوجھ ہے)

❁ يا حامِلَ اذكُرْ حَلًّا: (اے لادنے والے کھولنا بھی یاد رکھنا۔ (اس کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سفر کی حالت میں کوچ کیا۔ جن رسیوں سے سامان باندھا ان کی گرہیں بہت سخت لگا دیں۔ منزل پر اترے تو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سامان کھولنے میں بہت دشواری پیش آئی۔ جب دوسری منزل کے لئے سامان لادنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا۔ یا حامل اذکر حلا۔ یہ مثل عواقب پر نظر رکھنے کے لئے بولی جاتی ہے)

❁ أَحْمَلُ مِنَ الْأَرْضِ: زمین سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا۔

❁ حِمَى فَجَاشَ مِرْجَلُهُ: وہ گرم ہوا تو اس کی ہانڈی بھی ابل پڑی۔ (یعنی سخت غضبناک ہوا)

❁ يَحْمِى جَوَابِيَهُ نَقِيقُ الضِّفْدِعِ: مینڈکوں کی ٹرٹر اس کے تالابوں کی حفاظت کرتی ہے۔ (جوابي، جابية کی جمع ہے جابية کا معنی حوض ہے۔ اس شخص کے لئے کہتے ہیں جس کے پلے کچھ نہ ہو سوائے باتوں اور بک بک کے)

❁ رُبَّ حَامٍ لِأَنْفِهِ وهو جادعُهُ: بہت سے لوگ جو اپنی ناک بچاتے ہیں دراصل اس کو کاٹنے والے ہوتے ہیں۔

❁ حِمَاكَ أَحْمَى لَكَ: تیرا اپنا دفاع ہی تیرا زیادہ محافظ ہے۔

❁ أَحْمَى مِن انف الأسد: شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ۔

❁ أَحْمَى مِنْ مُجِيرِ الجراد: ٹڈی کو پناہ دینے والے سے زیادہ محافظ (مدلج بن سوید الطائی ایک دن اپنے خیمہ میں اکیلا تھا۔ اچانک بنی طے کے کچھ لوگ آ گئے ان کے پاس برتن تھے مدلج نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے صحن میں ٹڈیاں اتری ہوئی ہیں، ہم انہیں لینے آئے ہیں، اس پر مدلج اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور نیزہ ہاتھ میں لے کر کہا: خدا کی قسم! تم میں سے کوئی ٹڈیوں سے کوئی واسطہ نہ رکھے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ اور ٹڈیوں کی رکھوالی کرتا رہا یہاں تک کہ دھوپ تیز ہونے پر ٹڈیاں اڑ گئیں تب کہا۔ اب ٹڈیوں کو پکڑ سکتے ہو کیونکہ وہ میرے پاس سے چلی گئی ہیں۔

❁ حَانِيَةٌ مُخْتَضِبَةٌ: ایک شفیق خضاب لگانے والی عورت (ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا تھا اس کا ایک بیٹا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی اور اپنے بیٹے پر متوجہ رہے گی۔ اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتی تو اسے یہ بات کہی گئی۔ یہ مثل ایسے شخص کے بارے میں بولی جاتی ہے جس کا معاملہ شک میں مبتلا کرتا ہو)

❁ الحاجَةُ تَفْتُقُ الحِيلَةَ: ضرورت حیلہ پیدا کر دیتی ہے (یعنی ضرورت پورا کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی حیلہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں محاورہ ہے۔ ''ضرورت ایجاد کی ماں ہے'')

❁ حَالَ الجريضُ دُونَ القريض: شعر کے آگے غم حائل ہو گیا۔ (جریض: غم قریض: شعر۔ اصل اس کی یہ ہے کہ نعمان کے دو دن ایسے تھے جن میں سے ایک شدت اور دوسرا نعمت کا دن تھا۔ جو شخص شدت کے دن ملتا اسے قتل کروا دیتا اور جو نعمت کے دن ملتا اس کو مالدار بنا دیتا۔ ہوا یہ کہ شدت کے دن نعمان کو شاعر عبید بن الابرص جو اس کے خاص قدماء میں سے تھا ملنے آیا تو نعمان نے اس سے کہا۔ کاش تو ہمیں کسی اور دن ملنے آتا۔ لہٰذا اب تو اپنی جان کے علاوہ کوئی خواہش کر۔ شاعر نے کہا: کہ اپنی جان سے مجھے کوئی چیز عزیز نہیں۔ نعمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے اپنے شعر سنانے کی فرمائش کر ڈالی۔ تو عبید شاعر نے کہا:

حال الجريضُ دو القريض اور یہ ضرب المثل بن گئی۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مثل کا اصل یہ ہے کہ ایک شخص کا بیٹا اچھے شعر کہتا تھا۔ باپ نے اس سے منع کیا۔ تو اس سے اس کے دل کو صدمہ ہوا، وہ بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا تو اس کے والد نے اسے شعر کہنے کی اجازت دیدی۔ تو اس نے یہ مصرع کہا حال الجریض دون القریض۔ یہ مثل ایسے معاملہ کے لئے ہے جس پر آخر الامر قدرت حاصل ہو جب وہ کچھ سود مند نہ رہے)

❁ حَالَ الأَجَلُ دُونَ الأَمَلِ: امید کے سامنے موت حائل ہو گئی۔ (یہ پہلی مثل کے قریب قریب ہے)

❁ إن حَالَتِ القَوْسُ فَسَهْمِي صائِبٌ: اگرچہ میری کمان ٹیڑھی ہے مگر میرا نشانہ خطا نہیں ہوتا (حالت القوس کا معنی کمان کا سیدھا نہ رہنا، جبکہ سھم صائب اس تیر کو کہتے ہیں جو نشانہ پر لگے اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی دولت و نعمت نہ رہے مگر مروت باقی ہو۔

❁ رُبَّ حَالٍ أَفْصَحُ من لسانٍ: کئی دفعہ حال زبان سے زیادہ فصیح ہوتا ہے۔

❁ أَحْوَلُ مِن أَبِي قَلَمُونَ: ابو قلمون سے زیادہ بدلنے والا۔ ابو قلمون ایک قسم کا کپڑا جس کے رنگ آنکھوں جیسے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔

❁ أَحْوَلُ مِن أبي بَرَاقِش: ابو براقش سے زیادہ متلون (ابو براقش ایک پرندہ ہے جو ایک دن میں کئی مختلف رنگ بدلتا ہے)

❁ الحَاوِي لاينجُو من الحيّات: سانپ پر منتر پڑھنے والا سانپوں سے نہیں بچتا۔ (مراد جو سانپ پکڑتا ہو کبھی نہ کبھی ڈسا جاتا ہے)

❁ أَحْيَرُ مِنْ ضَبٍّ: گوہ سے زیادہ متحیر (کیونکہ وہ جب اپنا بل چھوڑ کر جاتا ہے تو واپسی کا راستہ بھول جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنا بل چھوڑ کر جانے لگتا ہے تو دروازے کے پاس پتھر رکھ دیتا ہے تاکہ اس سے راستہ پا لے۔ لیکن اگر شکاری پتھر کو وہاں سے ہٹا دے تو وہ اسے متحیر کر کے پکڑ لیتا ہے)

❁ حِيلَةُ مَنْ لاحِيلَةَ لَهُ الصبر: جس کا کوئی حیلہ نہ ہو اس کا حیلہ صبر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خود کو ناپسندیدہ بات دور کر کے فائدہ نہ پہنچا سکے وہ صبر تو کر سکتا ہے اور صبر کے ثواب اور اچھی بات میں اس کے لئے نفع کا اکتساب کر سکتا ہے)

❁ مَاحِيلَةُ الرَّامِي إذا إنقَطَعَ الوَتَرُ: جب تانت ہی ٹوٹ جائے تو تیر انداز کیا کر سکتا ہے۔

❁ إذا حَانَ القَضَاءُ ضَاقَ الفَضَاءُ: جب قضا آتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے۔

❁ لاتُحْيِ البَيْضَ وَتَقْتُلِ الفِرَاخَ: ایسا نہ کر کہ انڈے رہنے دے اور

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چوزے مار ڈالے (یعنی چھوٹی چیز کی حفاظت کی قیمت پر بڑی چیز کو ضائع نہ کر)

۞ حَيَّاكَ مَنْ خَلا فُوهُ: تجھے خالی منہ والے نے سلام کیا۔ اس کی اصل یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا کہ ایک اور شخص اس کے پاس سے گزرا اور اسے سلام کیا۔ منہ میں خوراک کی وجہ سے وہ اس کا جواب نہ دے سکا تو اس نے یہ بات کہی۔ ساتھی سے بے توجہی کے بارے میں کہا جاتا ہے)

۞ لاحَيٌّ فَيُرجى ولا مَيِّتٌ فَيُنسَى: نہ زندہ ہے جس سے امید کی جائے اور نہ مردہ جس کو بھلایا جائے۔

۞ أحيا من فَتاةٍ: نوجوان عورت سے زیادہ حیادار۔

۞ أحيا مِنْ مُخَدَّرَة: پردہ نشین عورت سے زیادہ باحیا۔

۞ أحيا مِن هَدِيّ: دلہن سے زیادہ حیادار۔ ہدی: (جسے آراستہ کر کے شوہر کو دیا گیا ہو)

۞ أحيا مِنْ ضَبّ: گوہ سے زیادہ لمبی عمر والا یہاں أَحْيىٰ حیاة سے معنی لمبی عمر والا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ گوہ کی عمر طویل ہوتی ہے۔

۞ الحَياءُ مِنَ الإيمانِ: حیا ایمان کا جز ہے۔ (کیونکہ باحیاء شخص حیاء کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کی طرف عربوں کا یہ قول اشارہ کرتا ہے۔

۞ إذا لَمْ تَسْتَحِي فاصْنَعْ ما شِئْتَ: جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ غالباً فارسی میں اس سلسلہ میں کہا جاتا ہے۔ بے حیا باش دہر چہ می خواہی کن۔

خ

۞ إمَّا خَبَّتْ وإمَّا بَرَكَتْ: یا تیز دوڑی یا بیٹھ ہی گئی (خبب دوڑ کی ایک قسم یعنی تیز دوڑنا اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کبھی خیر میں حد سے تجاوز کرتا ہو اور کبھی برائی میں اور دونوں میں منزل پر پہنچ جائے۔

۞ أخبرتُهُ بِعُجَرِي وبُجَرِي: میں نے اس کو اپنے تمام رازوں کی اطلاع دیدی۔ (عُجَر بمعنی پیچ در پیچ رگیں اور بُجَر بمعنی پیٹ کی ایسی تمام رگیں۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے آپ اس پر بھروسہ اور اعتماد کی بناء پر اپنے تمام عیوب سے آگاہ کر دیں۔

۞ تُخْبِرُ عَنْ مَجْهُولِهِ مَرْآتُهُ: اس کا ظاہر اس کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے۔

۞ يُخْبِرُكَ أدْنَى الأرْضِ عن أقْصاها: زمین کا ابتدائی حصہ اس کے انتہائی حصہ کی خبر دے رہا ہے۔ (یا قریبی حصہ دور کے حصہ کی)

۞ لَيْسَ الخَبَرُ كالمُعايَنَةِ: سنی ہوئی بات دیکھی جیسی نہیں۔

۞ عَلَى الخَبيرِ سَقَطْتَ: جاننے والے کے پاس ہی پہنچے ہو (مراد یعنی اسی سے پوچھا ہے جو معاملہ سے بخوبی واقف ہے)

۞ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْواءَ: وہ اندھی اونٹنی کی طرح پاؤں مارتا ہے۔ (عشواء کمزور نظر اونٹنی یا اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جسے رات کو نظر نہ آتا ہو اور یوں وہ ہر چیز روند ڈالتی ہو اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو بے سوچے سمجھے کسی کام میں پڑ جائے یا کسی کام کو لاپرواہی سے کرے۔ اور انجام کا مطلق خیال نہ کرے۔

۞ أخْبَطُ مِنْ حاطِبِ لَيْلٍ: رات کو لکڑی جمع کرنے والے سے زیادہ بے راہ چلنے والا۔ (ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو جانے بغیر اس کی تعریف کرنے لگے۔ کیونکہ رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا ہر چیز اکٹھی کر لیتا ہے اسے بھی جس کی ضرورت ہو اور اسے بھی جس کی ضرورت نہ ہو)

۞ أخْتَلُ مِنَ الذِّئْبِ: بھیڑیئے سے زیادہ دھوکے باز۔ (ختل کا معنی دھوکا دینا ہے)

۞ مَنْ خَدَمَ الرِّجالَ خُدِمَ: جس نے لوگوں کی خدمت کی اس کی خدمت کی گئی۔

۞ الخاذِلُ أخُو القاتِلِ: جو مدد کرنا چھوڑ دے وہ ایک طرح سے بھائی کا قاتل ہے۔ یعنی ساتھی کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا اس کا قاتل ہوتا ہے)

۞ تُخْرِجُ المِقْدَحَةُ مافي قَعْرِ البُرْمَةِ: چمچہ وہی نکالتا ہے جو ہنڈیا کے پیندے میں ہو (مقدحة: چمچہ یا ڈوئی۔ برمة: پتھر کی ہانڈی)

۞ قَدْ يَخْرُجُ مِنَ الصَّدَفِ غيرُ الدُّرِّ: کبھی سیپ سے موتی کے بجائے کچھ اور نکل آتا ہے۔

۞ لاتَخْرُجُ النَّفْسُ من الأمَلِ حَتّي تَدْخُلَ في الأجَلِ: نفس امیدوں کے پھندے سے اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک موت کے چنگل میں نہ آ جائے۔

۞ دُونَهُ خَرْطُ القَتادِ: اس سے آسان تو خاردار درخت کے پتے ہاتھ سے سونتنا ہے (خرط: درخت کے پتے ہاتھ سے کھینچ کر اتارنا کے معنی میں ہے۔ اور قتاد: سوئی جیسے کانٹوں والا درخت۔ ایسے کام کے لئے کہا جاتا ہے جس کے آگے رکاوٹیں ہوں۔

۞ الخَرُوفُ يَتَقَلَّبُ عَلَى الصُّوفِ: بھیڑ کا بچہ اون پر کروٹیں لیتا ہے۔ (ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو آرام سے زندگی بسر کر رہا ہو)

۞ أخْرَقُ مِنْ ناكِثَةِ غَزْلِها: سوت توڑنے والی سے زیادہ احمق۔ (قریش کی ایک عورت جو خود بھی کاتتی اور اپنی کنیزوں سے سوت کتواتی تھی پھر خود ہی کاتا ہوا سوت توڑ ڈالتی اور کنیزوں سے بھی ان کے کاتے ہوئے سوت تڑوا دیتی تھی)۔

۞ خَرْقاءُ ذاتُ نِيقَةٍ: پھوہڑ گھمنڈ بننے والی (خرقاء اس عورت کو کہتے ہیں جو کوئی کام اچھی طرح نہ کر سکے۔ نِيقَة تَنَوَّقَ سے اسم نوع ہے۔ کہا جاتا ہے تَنَوَّقَ في الامر یعنی اس نے کام کو مضبوطی اور حکمت سے سرانجام دیا۔ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے آتا جاتا کچھ نہ ہو لیکن دعویٰ کرے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔

۞ خَرْقاءُ عَيّابَةٌ: پھوہڑ عیب نکالنے والی (یعنی خود کچھ کرنا آتا نہیں مگر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دوسروں میں کیڑے نکالتا ہے)

❁ أَخْسَرُ مِنَ الْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ: پانی کو پکڑنے والے سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔

❁ مَنْ خَشِيَ الذِّئْبَ أَعَدَّ كَلْبًا: جو بھیڑیے سے ڈرے، کتا تیار کرے۔ (دشمنوں کے لئے تیاری کرنے کی ترغیب کے بارے میں ہے)

❁ لَا تُخَاصِمْ مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلَ: اس سے جھگڑا نہ کرنا جو جب کچھ کہے تو اس کو کر ڈالے۔

❁ إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنْ: کوڑے پر اگی ہوئی سبزی سے بچو۔ (دمن مینگنیوں اور پیشاب والی جگہ) جن پر بسا اوقات خوبصورت سبزہ آگ آتا ہے تو دیکھنے میں وہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن اگنے کی جگہ کے لحاظ سے خراب۔ یہ مثل ظاہری حسن سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے جس کا باطن خراب ہو)

❁ الْخَطَأُ زَادُ الْعَجُولِ: خطا جلد بازی کرنے والے کی زاد راہ ہے (یعنی جلد بازی کرنے والا غلطیاں ساتھ لے کر چلتا ہے)

❁ مَعَ الْخَوَاطِي سَهْمٌ صَائِبٌ: خطا کرنے والے تیروں کے ساتھ نشانہ پر لگنے والا تیر بھی ہوتا ہے۔ (اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو بار ہا غلطیاں کرتا رہے اور ایک مرتبہ ٹھیک کام کر لے۔ خواطی ان تیروں کو کہا جاتا ہے جو نشانہ خطا کریں)

❁ مَنْ خَطَبَ الْحَسْنَاءَ يُعْطِي مَهْرَهَا: جو حسینہ کو منگنی کا پیغام بھیجے، اس کا مہر بھی ادا کرے گا۔

❁ أَخْطَبُ مِنْ سَحْبَانَ وَائِلٍ: سحبان وائل سے زیادہ خطیب۔ (سحبان وائل باہلہ قبیلے کے خطیبوں اور شاعروں میں سے ایک کا نام)

❁ لِكُلِّ خِطَابٍ جَوَابٌ: ہر بات، سوال کا جواب ہوتا ہے۔

❁ لَيْسَ الْمُخَاطِرُ مَحْمُودًا وَلَوْ سَلِمَا: خطرہ مول لینے والا قابل تعریف نہیں ہوتا، چاہے بچ جائے۔

❁ خَفَّتْ نَعَامَتُهُمْ: ان کا شتر مرغ ہلکا ہو گیا (شَالَتْ نَعَامَتُهُم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی گروہ چشمہ سے کوچ کر کے بکھر جائے۔ شتر مرغ کی صفت ہلکا پن، تیز جانا اور بھاگنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نعامۃ کا معنی قوم کی ایک جماعت ہے۔)

❁ خَفِّفْ طَعَامَكَ تَأْمَنْ سَقَامَكَ: ہلکا کھانا کھاؤ گے تو بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ (لفظی ترجمہ اپنا کھانا ہلکا کر، بیمار ہونے سے بچا رہ)

❁ أَخَفُّ حِلْمًا مِنْ عُصْفُورٍ: چڑیا سے بھی بڑھ کر جلدی طیش میں آنے والا۔

❁ أَخَفُّ مِنْ يَرَاعَةٍ: نرکل سے زیادہ ہلکا۔

❁ أَخَفُّ مِنْ رِيشَةٍ: پر سے زیادہ ہلکا۔

❁ أَخَفُّ مِنَ النَّسِيمِ: باد نسیم سے زیادہ ہلکا۔

❁ أَخَفُّ مِنَ الْهَبَاءِ: غبار سے زیادہ ہلکا۔

❁ وَهَلْ يُخْفَى عَلَى النَّاسِ الْقَمَرُ: کیا چاند بھی لوگوں سے مخفی رہ سکتا ہے؟ (ایسی چیز یا معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جو مشہور ہو۔)

❁ مَا عِنْدَهُ خَلٌّ وَلَا خَمْرٌ: اس کے پاس نہ سرکہ ہے نہ شراب۔ (یعنی خیر یا شر میں سے اس کے پاس کچھ نہیں)

❁ مَا أَنْتَ بِخَلٍّ وَلَا خَمْرٍ: تو نہ تو سرکہ ہے نہ شراب (کچھ عرب شراب کو اس کی لذت کی وجہ سے خیر اور کھٹاس کی وجہ سے سرکہ کو شر قرار دیتے تھے اس لئے بھی کہ سرکہ پیا نہیں جا سکتا)

❁ الْخَلَّةُ تَدْعُو إِلَى السَّلَّةِ: مفلسی چوری کی دعوت دیتی ہے۔ (خلّۃ بمعنی افلاس اور ضرورت اور سلّۃ معنی چوری ہے۔ یعنی افلاس ذلیل کمائی کی دعوت دیتا ہے۔)

❁ تَخَلَّصَتْ قَائِبَةٌ مِنْ قُوبٍ: انڈا چوزے سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہے۔ (قائبۃ کا معنی انڈا اور قوب کا معنی چوزا۔ سختی سے نجات پانے پر کہا جاتا ہے۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک دیہاتی نے کسی تاجر کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا جب میں تجھے فلاں جگہ پہنچا دوں تو (برئت قائبة من قوب) انڈا چوزے سے بری ہو جائے گا۔ یعنی میں تیری حفاظت کی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں گا)

❁ إِخْتَلَطَ الْحَابِلُ بِالنَّابِلِ: جال والا تیر والے کے ساتھ خلط ملط ہو گیا۔ (حابل بمعنی جال والا اور نابل بمعنی تیر والا ہے۔ بہت سے شکاری اکٹھے ہو جائیں اور نیزے والے جال والوں میں گھل مل جائیں، تو کسی چیز کو شکار نہیں کیا جا سکتا۔ شکار تو انفرادی طور پر ہوتا ہے یہ مثل لوگوں کے معاملہ کے اس طرح گڑ بڑ ہو جانے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ کیونکہ ایسی گڑ بڑ پر کوئی تدبیر نہیں سوجھتی)۔

❁ إِخْتَلَطَ الْخَاثِرُ بِالزُّبَّادِ: گاڑھا دودھ خراب دودھ سے مل گیا۔ (خاثر بمعنی گاڑھا دودھ اور زُبّاد خراب دودھ کے معنی میں ہے۔ ایسی قوم کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی معاملہ کی گڑ بڑ میں پھنس کر رہ جائے)

❁ إِخْتَلَطَ الْمَرْعِيُّ بِالْهَمَلِ: چرایا ہوا اونٹ اور چھوڑا ہوا اونٹ گڈمڈ ہو گئے۔ (هَمَل وہ اونٹ جو کسی چرانے والے کے بغیر رات دن چھٹا رہے اور مرعی اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو چرایا جاتا ہے۔ گڑ بڑ معاملہ میں پھنس جانے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔)

❁ خَالِفْ نَفْسَكَ تَسْتَرِحْ: اپنے نفس کی مخالفت کر راحت پائے گا۔

❁ خَالِفْ هَوَاكَ تَرْشُدْ: اپنی خواہش کے خلاف کر ہدایت پا۔

❁ خَالِفْ تُذْكَرْ: مخالفت کرتا کہ تیرا ذکر کیا جائے۔

❁ أَخْلَفُ مِنْ عُرْقُوبٍ: عُرقوب سے زیادہ وعدہ خلاف۔ عرقوب عمالقہ میں سے ایک شخص کا نام جس کے بھائی نے اس سے سوال کیا تو مختلف وعدے کر کے ٹالتا رہا اور آخری وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ پہلے کہا کھجوریں نکلیں گی تو دوں گا، جب نکل آئیں تو کچے ہونے کا جب کچی ہوئیں تو گدرانے کا) گدرائیں تو پکنے، پکیں تو خشک ہونے اور چھوہارے ہونے تک وعدے ٹالتا رہا۔ اور چھوہارے ہوئیں تو کاٹ کر رات کو لے گیا اور بھائی کو کچھ نہیں دیا اور یہ واقعہ وعدہ خلافی میں ضرب

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

المثل بن گیا۔

❁ أَخْلَفُ مِنْ نَارِ الْحُبَاحِب: جگنو کی آگ سے زیادہ وعدہ خلاف (جو اندھیرے میں اڑے تو پر سرخ ہو جاتے ہیں اور پر دور سے آگ کا شعلہ دکھائی دیتا ہے۔

❁ خَلَقَ اللّٰهُ لِلْحَرْبِ رِجَالاً: اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لئے اور ہی مرد پیدا کئے ہیں۔

❁ خَلالَكِ الْجَوُّ فَبِيْضِي واصْفِرِي: تیرے لئے میدان خالی ہو گیا اب انڈے دے اور چہچہا۔ یہ حاجت پوری کرنے میں کامیاب ہونے کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات شاعر طرفہ ابن العبد نے کہی تھی۔ اس نے چنڈول کے شکار کے لئے جال لگایا اور تمام دن گزرنے کے باوجود کچھ شکار نہ کر سکا۔ پھر جال اٹھایا اور دور چلا گیا۔ اور وہاں سے دیکھا کہ چنڈول اس کے بکھیرے ہوئے دانے چگ رہے ہیں۔ اس موقع پر اس نے کہا:

یا لَكِ من قُنْبُرَةٍ بمعمر
خلالكِ الجوّ فبيضي و اصفری

❁ لايَخْلُو الْمَرْءُ مِنْ وُدُوْدٍ يَمْدَحُ وعُدوٍّ يَقْدَحُ: کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی تعریف کرنے والے دوست اور برائی کرنے والے دشمن سے خالی ہو۔

❁ خَلِّ مَنْ قَلَّ خيرُهُ، لَكَ فِي النَّاسِ غيرُهُ: اس شخص کو چھوڑ جس میں بھلائی نہ ہو، لوگوں میں تجھے اس کے علاوہ اور مل جائیں گے۔

❁ خلِّ الحسابَ ليومِ الحساب: حساب کو روز حساب کے لئے چھوڑ دے۔

❁ خَلاؤُكَ أَقْنَى لِحيَاتِكَ: تیری تنہائی تیری زندگی کے لئے زیادہ ضروری ہے (یعنی جب تم اپنے گھر میں تنہا ہوتے ہو تو لوگوں سے بچے رہتے ہو کیونکہ نہ تو تم کسی سے جھگڑ رہے ہوتے ہو اور نہ کوئی تم سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے۔ یوں تمہاری حیاء قائم رہتی ہے۔ یہ لوگوں کی صحبت کی مذمت میں کہا جاتا ہے)

❁ مَنْ لايَخَافُ أحَدًا لايخافُهُ أحَدٌ: جو کسی سے نہیں ڈرتا اس سے بھی کوئی نہیں ڈرتا۔

❁ مَنْ خَانَ هَانَ: جس نے خیانت کی ذلیل ہوا۔

❁ يارُبَّمَا خانَ النَّصِيحُ الْمُؤْتَمَنُ: کبھی امانت دار خیر خواہ بھی خیانت کر دیتا ہے۔ (زمانہ کے لوگوں پر اعتماد نہ کرنے کی ترغیب کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ أَخْيَبُ مِنْ قَابِضٍ على الماء: پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے سے زیادہ ناکام

❁ أَخْيَبُ مِنْ حُنَيْنٍ: حنین سے زیادہ ناکام کہا جاتا ہے (رَجَعَ بخفّي حنين) یعنی ناکام واپسی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔

❁ لَوْ خُيِّرْتِ لَاخْتَرْتِ: اگر تجھے اختیار دیا جاتا تو اختیار کر لیتی (چونکہ اختیار نہیں اس لئے بجز تسلیم کوئی چارہ نہیں)

❁ خَيْرُ الأُمُوْرِ أَوْسَاطُهَا: سب معاملوں میں بہترین وہ ہیں جو میانہ روی پر مبنی ہوں۔

❁ خَيْرُ الأُمُوْرِ مَاأَسْعَدَكَ فی دَارَيْكَ: بہترین کام وہی ہے جو تمہیں دونوں جہانوں میں نیک بخت بنا دے۔

❁ خَيْرُ الأُمُوْرِ أَحْمَدُهَا مَغَبَّةً: بہترین کام وہ ہے جس کی انجام پر تعریف کی جائے۔ (مَغَبَّة بمعنی عاقبت، انجام، یہ عربوں کے اس قول کے مانند ہے۔ الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيْمِهَا (اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے)

❁ خَيْرَ إِنَاءَيْكِ تَكْفَئِيْنَ: تو اپنے بہترین برتنوں کو الٹ رہی ہے۔ (كَفَأَ الإِنَاءَ کا معنی برتن کو الٹ دینا، اوندھا کر دینا ہے یعنی مستحق محروم اور غیر مستحق فیضیاب ہو رہے ہیں۔

❁ خَيْرُ أَهْلِكَ مَنْ كَفَاكَ: تیرا بہترین رشتہ دار وہ ہے جو تیرے لئے کافی ہو جائے۔

❁ خَيْرُ الْبُيُوْعِ نَاجِزٌ بِنَاجِزٍ: بہترین خرید و فروخت نقدا نقدی ہے۔

❁ خَيْرَ حَالِبَيْكِ تَنْطَحِيْنَا: تو اپنے بہترین دوہنے والے کو سینگ مارتی ہے۔ (اصل اس مثل کی ہے کہ ایک بکری یا گائے کے دو دوہنے والے تھے۔ ایک دوسرے سے زیادہ نرم تھا۔ وہ نرم دوہنے والے کو سینگ مارتی تھی اور دوسرے کو چھوڑ دیتی تھی۔ اچھا سلوک کرنے والے کو برا بدلہ دینے والے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ خَيْرُ الخِلالِ حِفْظُ اللِّسَانِ: بہترین خصلت زبان کی حفاظت کرنا ہے۔

❁ خَيْرُ سِلاحِ الْمَرْءِ مَاوَقَاهُ: آدمی کا بہترین ہتھیار وہ ہے جو اس کو بچائے (یعنی آدمی کی اولاد اور اس کے اہل خانہ میں سے اچھا وہ ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں دوسرے سے بے نیاز کر دے)

❁ خَيْرُ الأَصْحَابِ مَنْ دَلَّكَ عَلَى الْخَيْرِ: بہترین ساتھی وہ ہے جو خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے۔

❁ خَيْرُ العَفْوِ مَاكَانَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ: بہترین معافی وہ ہے جو قدرت حاصل ہوتے ہوئے دی جائے)

❁ خَيْرُ الْعِلْمِ ماحَضَرَكَ: بہترین علم وہ ہے جو (بوقت ضرورت) تیرے دل میں آجائے۔

❁ خَيْرُ الغِنى القُنُوْعُ: بہترین تموّل قناعت ہے۔

❁ خَيْرُ الْكَلامِ مَاقَلَّ ودَلَّ: بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مراد کو ظاہر کرنے والا ہو۔

❁ خَيْرُ الْمَالِ مَا نَفَعَ: بہترین مال وہ ہے جو نفع دے۔

❁ خَيْرُ مَالِكَ مَانَفَعَكَ: تیرا بہترین مال وہ ہے جو تجھے نفع پہنچائے۔ (معنی میں اس سے قریب لَمْ يَضِعْ مِنْ مَالِكَ مَاوَعَظَكَ (تیرا وہ مال ضائع نہیں گیا جس نے تیری خیر خواہی کی) ہے۔

❁ خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُهُ: اچھوں میں اچھا وہ ہے جو اچھے کام کرے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

❁ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ فَرِحَ للناس بالخير: بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی سے خوش ہو۔

❁ خَيْرُ الْوَعْظِ مَا رَدَعَ: بہترین نصیحت وہ ہے جو برائی سے باز رکھے۔

❁ اَلْخَيْرُ اَبْقَى وَاِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ: بھلائی زیادہ پائیدار ہے خواہ زمانہ کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو۔

❁ اِنَّ خَيْرَ الْفِقْهِ مَاحَضَرْتَ بِهِ: بہترین علم وہ ہے جو تو وقت پر پیش کر سکے۔

❁ لَاخَيْرَ فِيْ اَرَبٍ اَلْقَاكَ فِي لَهَبٍ: اس مقصد میں کوئی خوبی نہیں جو تجھے آگ کے شعلوں میں پھینک دے۔

❁ لَاخَيْرَ فِي السَّرَفِ وَلَا سَرَفَ فِي الخير: اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور نہ بھلائی میں کوئی اسراف ہے۔

❁ لَاخَيْرَ فِيْ وُدٍّ يَكُوْنُ بِشَافِعٍ: ایسی محبت میں کوئی خیر وخوبی نہیں جو کسی سفارش کرنے والے کے ذریعے ہو۔

❁ اَلْخَيْلُ تَجْرِي عَلَى مَسَاوِيْهَا: گھوڑا اپنے عیبوں کے باوجود چلتا ہے۔ (یعنی اگر گھوڑے میں کچھ عیوب ہوں تو اس کی فیاضی اسے دوڑنے پر اکساتی ہے۔ اسی طرح شریف اور فیاض شخص تکلیف برداشت کرتا ہے اور خاندان کی حفاظت کرتا ہے خواہ کمزور کیوں نہ ہو۔ یہ مثل ہر حال میں فیاضی پر کہی جاتی ہے۔

❁ اَلْخَيْلُ اَعْلَمُ بِفُرْسَانِهَا: گھوڑے اپنے سواروں کو خوب جانتے ہیں (مثل سے مراد یہ ہے کہ معاملہ شناس پر اکتفا کرو)

❁ اخيل مِنْ غُرَابٍ: کوے سے زیادہ اترانے والا (کوا اکڑ کر چلتا ہے)

❁ اَخْيَلُ مِنْ دِيْكٍ: مرغ سے زیادہ ناز دکھانے والا۔

د

❁ دَأْمَاءُ لَا يُقْطَعُ بِالْاَرْمَاثِ: سمندر لکڑیوں کے بیڑے سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ (دأماء بمعنی سمندر اور اَرْمَاث رَمَث کی جمع ہے۔ ارماث لکڑی کے گٹھوں کو جوڑ کر بنایا ہوا بیڑہ جو سمندر میں شکار وغیرہ کے کام آتا ہے۔ ایسے عظیم کام کے لئے کہا جاتا ہے جس کو سرانجام دینے کے لئے مددگاروں اور موزوں سامان کی ضرورت ہو۔

❁ اَدْبَرَ غَرِيْرُهُ وَاَقْبَلَ هَرِيْرُهُ: اس کی اچھی عادت نے پیٹھ پھیر لی اور بد خلقی سامنے آ گئی (غرير بمعنی اچھی عادت اور هرير بمعنی کراہیت و بد خلقی ہے۔ یعنی اس کی اچھی بات جاتی رہی اور بد خلقی وغیرہ کی ناپسندیدہ عادتیں آ گئیں)

❁ اَلتَّدْبِيْرُ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ: تدبیر آدھی روزی ہے۔

❁ كَدَابِغَةٍ وَقَدْ حَلِمَ الْاَدِيْمُ: کھال رنگنے والی کی طرح جب کھال خراب ہو گئی ہو۔ (حَلِمَ الجلدُ کا معنی ہے کھال کا خراب ہونا اور اس میں کیڑے پڑ کر سوراخ ہو جانا۔ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی معاملہ کی اصلاح کی اس وقت کوشش کرے جب وہ اس قدر خراب ہو چکا ہو کہ اصلاح کی امید نہ رہی ہو۔

❁ دَخَلَ فُضُوْلِيٌّ النَّارَ فَقَالَ الحطبُ رَطْبٌ: دو شخصوں کے معاملہ میں خود بخود دخل دینے والے نے آگ میں گھس کر کہا ایندھن گیلا ہے۔

❁ يُدْخِلُ شَعْبَانَ فِي رَمَضَانَ: وہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے میں داخل کر رہا ہے۔ (ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے، جو کوتاہی کرے)

❁ لَاتُدْخُلْ بَيْنَ الْبَصْلَةِ وَقِشْرِهَا: پیاز اور اس کے چھلکے کے درمیان نہ گھسو (خواہ مخواہ مداخلت نہ کرو)

❁ لَاتَدْخُلَنْ بَيْنَ الْعَصَا ولحائها: ڈنڈے اور اس کی چھال کے درمیان ہرگز داخل نہ ہو۔ (لحاء درخت یا لکڑی کی چھال مراد دو دوستوں کے مابین برائی لیکر جانا اچھا نہیں۔)

❁ لِكُلِّ دَرٍّ حَالِبٌ: ہر دودھ کا کوئی نہ کوئی دوہنے والا ہوتا ہے۔

❁ اِدْرَهَا وَاِنْ اَبَتْ: اس کو دوھ لے خواہ وہ انکار کرے۔ (یہ اس اونٹنی کے لئے کہا جاتا ہے جو رانیں باندھے بغیر دودھ دوہنے نہ دیتی ہو۔ مراد یہ ہے کہ ضرورت یا بھلائی کو بہ اصرار واکراہ حاصل کر لینا چاہئے)۔

❁ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى من جَلْبِ النِّعَمِ: مفاسد کو دور کرنا نعمتیں حاصل کرنے سے بہتر ہے۔

❁ يَدْرُجُ فِي كُلِّ وَكْرٍ: وہ چڑھ کر ہر گھونسلے تک پہنچ جاتا ہے (یعنی وہ ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے)

❁ اَلدَّرَاهِمُ مَرَاهِمُ: روپے مرہم کا کام کرتے ہیں۔

❁ اَلدَّرَاهِمُ اَرْوَاحٌ تَسِيْلُ: روپے بہتی ہوئی روحیں ہیں۔

❁ مَنْ لَمْ يُدَارِ الْمِشْطَ يَنْتِفُ لِحْيَتَهُ: جو شخص کنگھی نرمی سے استعمال نہیں کرتا وہ اپنی ہی داڑھی کے بال اکھاڑتا ہے۔

❁ لا يُدْعَى لِلْجُلَّى اِلَّا اَخُوْهَا: بڑے معاملہ کے لئے اس کا ماہر ہی بلایا جاتا ہے۔

❁ اُدْعُ اِلَى طِعَانِكَ مَنْ تَدْعُوْهُ اِلَى جِفَانِكَ: اپنی نیزہ بازی کے لئے اسی کو بلاؤ جس کو اپنے پیالے کی دعوت دیتے ہو۔ (یعنی اپنی مدد پر اسی سے کام لو جس پر احسان کیا ہو)

❁ اِدْفَعِ الشَّرَّ بِعُوْدٍ اَوْ عَمُوْدٍ: برائی کو لکڑی یا لوہے کی سلاخ سے دور کر۔

❁ اَدَقُّ مِنَ الْهَبَاءِ: غبار سے زیادہ باریک۔

❁ اَدَقُّ مِنَ الْكُحْلِ: سرمہ سے زیادہ باریک۔

❁ اَدَقُّ مِنَ الدَّقِيْقِ: آٹے سے زیادہ باریک۔

❁ اَدَقُّ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ: تلوار کی دھار سے زیادہ باریک۔

❁ دَلَّ عَلَى عَاقِلٍ اِخْتِيَارُهُ: عقلمندی کا انتخاب عقل مندی کو ظاہر کرتا ہے۔

❁ اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ: نیکی کا راستہ بنانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

دَلِيْلُ عَقْلِ الْمَرْءِ فِعْلُهُ وَدَلِيْلُ عِلْمِهِ قَوْلُهُ: آدمی کی عقل کی دلیل اس کا عمل اور اس کے علم کی دلیل اس کا قول ہے۔

لَيْسَ الدَّلْوُ إِلَّا بِالرِّشَاءِ: ڈول رسی کے بغیر کچھ نہیں۔ (ڈول کے ساتھ رسی نہ ہو تو وہ تمہارے لئے پانی کھینچ کر نہیں لاسکتا یہ مثل اس بارے میں ہے کہ آدمی کو قوت و ہمت اپنے رشتہ داروں سے ہی حاصل ہوتی ہے)

دَمِّثْ لِجَنْبِكَ قَبْلَ النَّوْمِ مُضْطَجَعًا: لیٹ کر سونے سے پہلے اپنے پہلو کے لئے بستر نرم کرلو۔ (تَدْمِيْث بمعنی نرم کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حوادث ونوائب نازل ہونے سے پہلے تیاری کرلو)

دَمْعَةٌ مِنْ عَوْرَاءَ غَنِيْمَةٌ بَارِدَةٌ: کانی آنکھ سے ایک آنسو بھی بڑی غنیمت ہے۔ (عوراء سے مراد عین عوراء ہے۔ غنیمۃ باردہ بمعنی مشقت کے بغیر ملنے والی غنیمت ہے۔ ایسے بخیل کے لئے کہا جاتا ہے جس سے تھوڑا سا مل جائے)

أَدْنَأُ مِنَ الشِّسْعِ: تسمے سے زیادہ حقیر۔ (شِسْع جوتے کا تسمہ)

كُلُّ دَنِيٍّ دُوْنَهُ دَنِيٌّ: ہر قریب سے ورے کوئی نہ کوئی قریب ہوتا ہے۔ (یہاں دنی جو دنو سے فعل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے اور دانی یعنی قریب کے معنی میں ہے)

أَدْنَى مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ: شہ رگ سے زیادہ قریب (حبل الورید گردن کی ایک رگ یعنی شہ رگ)

دُنْيَاكَ مَا أَنْتَ فِيْهِ: تیری دنیا وہ ہے جس میں تو موجود ہے۔

الدَّهْرُ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ: زمانہ دو دن کا ہے، ایک دن تیرے نفع کا اور ایک تیرے نقصان کا۔

لِكُلِّ دَهْرٍ رِجَالٌ: ہر زمانہ کے لئے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک عرب کا قول ہے کہ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ دَهْرٍ رِجَالٌ۔ یعنی ہر جگہ کے لئے ایک کلام اور ہر زمانہ کے لئے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔

مَا الدَّهْرُ إِلَّا هٰكَذَا فَاصْبِرْ لَهُ: زمانہ تو ایسا ہی ہے لہٰذا صبر کرو۔

يَدْهُنُ مِنْ قَارُوْرَةٍ فَارِغَةٍ: وہ خالی شیشی سے تیل مل رہا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو وعدے کرے مگر انہیں پورا نہ کرے)

بِهِ دَاءُ ظَبْيٍ: اسے ہرن کی بیماری ہے (یعنی کوئی بیماری نہیں ہے۔ جیسے ہرن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ عربوں کے خیال میں ہرن کبھی بیمار نہیں ہوتا)۔

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ: ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے۔

بَيْنَهُمْ دَاءُ الضَّرَائِرِ: ان کے درمیان سوکنوں کی بیماری ہے۔ (ضرائر ضرة کی جمع ہے یعنی سوکن۔ لوگوں کے دلوں میں جڑیں پکڑ جانے والے حسد اور دشمنی کے لئے کہا جاتا ہے۔ سوکنوں کا حسد مشہور ہے اور ان کی ایک دوسرے سے دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور وہ ہر وقت جھگڑتی رہتی ہیں)

دَاءُ الدَّهْرِ الصَّبْرُ عَلَيْهِ: زمانہ کی سختیوں کا علاج ان پر صبر کرنا ہے۔

إِنَّ دَوَاءَ الشَّقِّ أَنْ تَحُوْصَهُ: پھٹنے کی دوا یہ ہے کہ اسے ٹانکے لگا کر سی دیا جائے (حوص سینا کے معنی میں ہے اور پھٹی ہوئی چیز کو جوڑ دینا ہے)

نِعْمَ الدَّوَاءُ الْأَزْمُ: بہترین دواء پرہیز ہے۔ (ازم پرہیز اور کھانے سے رک جانا کے معنی میں ہے)

أَنَا دُوْنَ هٰذَا وَفَوْقَ مَا فِيْ نَفْسِكَ: میں اس سے تو کم ہوں مگر اس سے ضرور اوپر ہوں جو تیرے دل میں ہے (منافقانہ تعریف کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے)

كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ: جیسا بدلہ دو گے ویسا ہی بدلہ دیئے جاؤ گے (یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی تم سے کیا جائے گا۔ دِیْن بمعنی بدلہ ومحاسبہ ہے)

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ (نصیحت دراصل لوگوں کو قریب کرنا اور تفریق کے باعث کو دور کرنا کے معنی میں ہے۔ کیونکہ نصح الثوب کے معنی کپڑے کو سینا ہے)

الدِّيْنُ مِيْسَمُ الْكِرَامِ: مکافات وجزاء شریفوں کی علامت ہے۔

ذ

ذِئْبٌ إِسْتَنْعَجَ: بھیڑیا بھیڑ بن گیا۔

الذِّئْبُ خَالِيًا أَسَدٌ: بھیڑیا خالی میدان میں شیر ہوتا ہے (جب بھیڑیا انسان کو تنہا پاتا ہے تو جرأت اور دلیری میں شیر بن جاتا ہے۔ ایک عرب کا مقولہ ہے کہ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّئْبَ انما يصيب قاصية الغنم۔ یعنی جماعت سے منسلک رہو کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو پکڑتا ہے جو گلے سے دور ہو)

مَنْ لَمْ يَكُنْ ذِئْبًا أَكَلَتْهُ الذِّئَابُ: جو بھیڑیا نہ ہوگا اس کو بھیڑیئے کھا جائیں گے۔

مَا الذُّبَابُ وَمَا مَرَقَتُهُ: کیا مکھی اور کیا اس کا شوربا (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جسے کم قدر کیا جائے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے: کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا)

الذِّبَّانُ يَعْرِفُ اللَّبَّانَ: کھیاں دودھ پینے والے کے چہرے کو پہچانتی ہیں۔ (ذبان ذُبابۃ کی جمع ہے بمعنی کھیاں)

إِذْخَارُ الرِّجَالِ أَوْلَى مِنْ إِذْخَارِ الْمَالِ: مردوں کا ذخیرہ کرنا مال کے ذخیرہ کرنے سے بہتر ہے۔

ذُقْهُ تَغْتَبِطْ: اسے چکھ شادمان ہو جائے گا۔ (اس کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک ایسا نہیں کر رہا تھا۔ تو شراب نوشی کرنے والوں نے اس سے کہا ذُقْهُ تَغْتَبِطْ شراب چکھے گا تو ہماری طرح خوشی سے جھومنے لگے گا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کوشش کرنے میں سستی کرنے کی وجہ سے محروم رہے)

ذَكَّرْتَنِي الطَّعْنَ وَكُنْتُ نَاسِيًا: تو نے مجھے نیزہ یاد دلا دیا حالانکہ میں بھولا ہوا تھا (اس کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک دوسرے پر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اسے قتل کرنے کا لئے حملہ کیا، دوسرا شخص جس پر حملہ کیا گیا تھا دہشت اور گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ کے نیزے کو بھول گیا۔ حملہ کرنے والے نے اس سے کہا اپنا نیزہ پھینک دے تو اس نے جواب میں کہا۔ میرے پاس نیزہ ہے اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو نے مجھے نیزہ یاد دلا دیا حالانکہ میں اسے بھولا ہوا تھا۔ اور یہ کہہ کر حملہ آور پر نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔۔ ایک چیز سے دوسری چیز یاد آ جانے کے بارے بولا جاتا ہے)

❁ اُذْكُرِ النِّعْمَةَ الْقَدِيْمَةَ عَلَيْكَ وَانْسَ النِّعْمَةَ الجَدِيْدَةَ لكَ: تم اپنے اوپر پرانی نعمتوں کو یاد رکھو اور اپنے لئے نئی نعمتوں کو بھول جاؤ۔ (مراد پرانی نعمتوں پر شکر کرو اور نئی آسائشوں کے لئے حریص نہ بنو)

❁ اُذْكُرْ مَعَ كُلِّ نِعْمَةٍ زَوَالَهَا: ہر نعمت کے ساتھ اس کے زوال کو بھی یاد رکھو۔

❁ اُذْكُرْ غَائِباً يَقْتَرِبْ: غائب کا ذکر کرے گا تو وہ قریب آ جائے گا۔

❁ كُنْ ذَكُوْرًا إِذَا كُنْتَ كَذُوبًا: تو بڑا جھوٹا ہو تو اچھے حافظہ والا ہو جا۔ (دروغ گورا حافظہ نہ باشد)

❁ ذَلَّ مَنْ لَاسَيْفَ لَهُ: وہ شخص ذلیل ہو جاتا ہے جس کے پاس تلوار نہ ہو۔

❁ لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ: جس پر لومڑیاں پیشاب کر گئیں وہ ذلیل ہو گیا۔ (اس کی اصل یہ ہے کہ ایک عرب کسی بت کو پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی آئی اور اس نے اس بت پر پیشاب کر دیا اس موقع پر اس نے کہا:

أَرَبٌّ يَبُوْلُ الثعلبان برأسِهِ
لَقَدْ ذُلَّ مَنْ بالت عليه الثعالبُ

کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں؟ جس پر لومڑیاں پیشاب کر گئیں وہ ذلیل ہو گیا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو حقیر و کمزور ہو اس پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس سے بچ نہ سکے)۔

❁ ذُلٌّ لَوْ أَجِدُ نَاصِرًا: یہ بڑی ذلت کی بات اگر مجھے مددگار مل جائے تو اس کو قبول نہیں کروں گا۔

❁ أَذَلُّ مِنْ بَيْضَةِ الْبَلَدِ: شترمرغ کے بیابان میں چھوڑے ہوئے انڈے سے زیادہ ذلیل (جس کے پاس وہ مڑ کر نہیں آتا (یہاں بلد سے مراد وہ ریتلی جگہ ہے جہاں شترمرغ انڈے دیتے ہیں)

❁ أَذَلُّ مِنَ النَّقَدِ: چھوٹی چھوٹی ٹانگوں اور بدصورت شکلوں والی بکریوں سے زیادہ ذلیل (جو بحرین میں پائی جاتی ہے۔ نقد اسم جنس ہے اس کا واحد نقدہ ہے)

❁ أَذَلُّ مِنْ وَتَدٍ: میخ سے زیادہ ذلیل۔ (کیونکہ وہ ہمیشہ ٹھونکی جاتی ہے)

❁ أَذَلُّ مِنَ النَّعْلِ: جوتے سے زیادہ ذلیل۔

❁ أَذَلُّ مِنَ الشِسْعِ: تسمہ سے زیادہ ذلیل۔

❁ أَذَلُّ مِنَ الْبِسَاطِ: فرش سے زیادہ ذلیل۔ (جو بچھایا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو روندتا ہے)

❁ أَذَلُّ النَّاسِ مُعْتَذِرٌ إِلَى لَئِيمٍ: سب لوگوں سے ذلیل وہ ہے جو کمینہ سے معذرت خواہ ہو)

❁ إِنَّ الذَّلِيْلَ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ عَضُدٌ: درحقیقت ذلیل وہ ہے جس کا بازو نہ ہو (یعنی مددگار نہ ہوں)

❁ إِنَّ الذَّلِيْلَ مَنْ ذَلَّ فِي سُلْطَانِهِ: درحقیقت ذلیل وہ ہے جو طاقت اور اقتدار ہوتے ہوئے بھی ذلیل ہو جائے۔ (اور اس موقع پر بھی کمزوری دکھائے جہاں اس کے اختیار کے استعمال کرنے کی توقع ہو)

❁ لَاذَنْبَ لِي قَدْ قُلْتُ لِلْقَوْمِ اسْتَقُوْا: میرا کوئی گناہ نہیں میں تو لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ وہ پانی لے لیں۔ (معاملات سے بیزاری اور اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو نصیحت نہ مانے۔ یہ بات وہ شخص کہتا ہے جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہو مگر لوگ باز نہ آتے ہوں)

❁ مَاذَنْبِي يَدَاكَ أَوْكَتَا وَفُوْكَ نَفَخَ: میرا کوئی قصور نہیں، تیرے ہاتھوں نے اس کا منہ باندھا تھا اور تیرے ہی منہ نے ہوا بھری تھی۔ (أَوْكَي رأس السقاء کا معنی مشک کا منہ باندھنا۔ اس قصہ کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خلیج عبور کرنے کا ارادہ کیا اور وہ اپنی مشکوں میں ہوا بھرنے لگے تا کہ ان کے ذریعے خلیج عبور کریں۔ ایک شخص نے پھونک بھی کم بھری اور مشک کا منہ بھی ڈھیلا بند کیا۔ جب وہ شخص خلیج کے وسط میں پہنچا تو مشک سے ہوا نکلنے لگی۔ یہاں تک کہ ساری ہوا نکل گئی اور اس شخص پر موت کی غشی طاری ہونے لگی تو اس نے ساتھیوں میں سے ایک کو پکار کر کہا۔ میں برلب ہلاکت ہوں تو اس شخص نے کہا۔

ماذنبی، يداك اوكتا وفوك نفخ۔ یہ قول ہلاکت اور نقصان کے سبب سے بے زاری کے متعلق ضرب المثل بن گیا)

❁ ذَهَبَ أَمْسِ بِمَا فِيْهِ: کل اپنے حالات کے ساتھ گزر گیا۔

❁ ذَهَبَ الْحِمَارُ يَطْلُبُ قَرْنَيْنِ فَعَادَ مَصْلُوْمَ الْأُذُنَيْنِ: گدھا سینگ لینے گیا کان کٹوا کر لوٹا (اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو اس چیز کا لالچ کرے جسے وہ حاصل نہ کر سکتا ہو اور الٹا اپنی چیز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے)

❁ ذَهَبَ دَمُهُ دَرَجَ الرِيَاحِ أَوْ أَدْرَاجَ الرِيَاحِ: اس کا خون رائیگاں گیا (یعنی قصاص نہ لیا جا سکا۔ ادراج درج کی جمع ہے درج الریاح ہوا کا راستہ کے معنی میں ہے ایسے خون کے بارے میں کہا جاتا ہے جو رائیگاں جائے اور کوئی اس کا قصاص طلب کرنے والا نہ ہو)

❁ ذَهَبَ بَيْنَ الصَّحْوَةِ وَالسَّكْرَةِ: وہ ہوش اور مدہوشی کے درمیان گیا (یعنی ایسی حالت میں کہ کچھ عقل و شعور تھا اور کچھ عقل و شعور نہ تھا۔

❁ ذَهَبَ فِي السُّمَّهَى: وہ فضا میں چلا گیا (سُمَّهَی کا معنی ہے زمین اور آسمان کے درمیان فضا۔ مراد وہ باطل میں گیا۔ کہا جاتا ہے۔ ذهبت إِبِلُهُ السُّمَّهَى (اس کے اونٹ ہر طرف بکھر گئے۔ جَرى فُلَانٌ السُّمَّهَى (فلاں شخص ایسے کام کے لئے گیا جس سے اس کی کچھ بھی

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

واقفیت نہیں۔

❁ ذَهَبَتْ هَيْفٌ لِأَدْيَانِهَا: گرم ہوا اپنی عادت کے متعلق چلی۔ ھیف کا معنی گرم ہوا جو پودوں کو خشک کر دے اور جانوروں کو پیاسا۔ لادیانھا کا معنی اپنی عادتوں کے مطابق۔ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب ہر شخص اپنے کام کے لئے منتشر ہو جائے یا ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنی عادت پر لگا رہے۔

❁ إِنْ ذَهَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ فِي الرِّبَاطِ: اگر ایک گورخر ہاتھ سے نکل گیا ہے تو ایک جال میں پھنسا ہوا ہے۔ (یہاں رباط بمعنی جال ہے، اور عیر بمعنی گورخر (جنگلی گدھا) ہے۔ شکاری سے کہا جا رہا ہے اگر ایک گورخر چلا گیا ہے اور جال میں نہیں پھنسا، تو اس گورخر پر اکتفا کر لے جو پھنسا ہوا ہے۔ حاضر پر قناعت اور غائب کو ترک کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ ذَهَبُوا تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ: وہ ہر ستارے کے نیچے گئے (ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کے سفر میں راستے مختلف اور متضاد ہوں)

❁ ذَهَبُوا أَوْ تَفَرَّقُوا أَيْدِيْ سَبَا أَوْ أَيَادِيْ سَبَا: وہ اہل سبا کی طرح چلے گئے یا منتشر ہو گئے (یعنی ایسے منتشر ہوئے کہ پھر اکٹھے نہ ہو سکے۔ (اس مثل کی اصل یہ ہے کہ سبا کے باشندوں کو اس سیلاب سے ڈرایا گیا جس نے مارب میں بنائے گئے بند کو تباہ کر دیا تھا، تو وہ لوگ یمن سے منتشر ہو کر نکل گئے۔ ایدی یا آیادی سے مراد نفوس ہیں۔ یہ دونوں حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہیں اور معنی ہے منتشر ہو کر یا بدک کر۔ بعض کے نزدیک ایدی یہاں راستوں کے معنی میں ہے۔ یعنی ان لوگوں کو ان کے راستوں نے اسی طرح منتشر کر دیا جس طرح سبا کے باشندے مختلف راستوں میں منتشر ہو گئے تھے)

❁ لَا يَذْهَبُ الْعُرْفُ بَيْنَ اللّٰهِ وَالنَّاسِ: احسان اللہ اور لوگوں کے درمیان نہیں چلتا۔ (عرف معروف (احسان) کے معنی میں ہے۔ یہ مثل حُطَیئہ کے شعر کا آخری مصرعہ ہے اور پہلا مصرعہ یہ ہے: مَنْ يَّفْعَلِ الْعُرْفَ لَا يُعْدَمْ جَوَازِيَهُ (جو احسان کرے وہ اپنے انعامات سے محروم نہیں ہوتا)

❁ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ: تیرے مال کا وہ حصہ ضائع نہیں ہوا جس نے تجھے نصیحت کی۔

❁ إِذْهَبْ إِلَى حَيْثُ أَلْقَتْ رَحْلَهَا أُمُّ قَشْعَمَ: اس جگہ جا جہاں ام قشعم نے اپنی کجاوہ ڈالا تھا۔ (قشعم ایک اونٹنی کا نام ہے جس نے اپنا کجاوہ آگ میں پھینک دیا تھا۔ لہٰذا یہ ضرب المثل بن گیا)

❁ مَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ يَتَهَدَّمْ: جو شخص اپنے تالاب کی حفاظت نہیں کرتا وہ منہدم ہو جاتا ہے۔ (یعنی جو شخص اپنی حفاظت نہیں کرتا اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور اس کے حق مارے جاتے ہیں)

❁ كُلُّ ذَاتِ ذَيْلٍ تَخْتَالُ: ہر دامن والی نازو ادا سے چلتی ہے۔ (یعنی ہر مال دار متکبرانہ چال سے چلتا اور اپنے مال پر فخر کرتا ہے)

ر

❁ رَأْسُ الدِّيْنِ صِحَّةُ الْيَقِيْنِ: دین کی اصل یقین کی درستی ہے۔

❁ كُلُّ رَأْسٍ بِهِ صُدَاعٌ: ہر سر میں درد ہوتا ہے۔

❁ رُبَّ رَأْسٍ حَصِيْدُ لِسَانٍ: بہت سے سر زبان کے کاٹے ہوئے ہیں۔ (حصید بمعنی حصود (کاشت کا کٹا ہوا حصہ)

❁ كَأَنَّ عَلٰى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ: گویا ان کے سروں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ (سنجیدگی، بردباری اور وقار کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے سروں پر بھی پرندے بیٹھے ہوں اور اس ڈر سے کہ وہ اڑ نہ جائیں بے حس و حرکت و پرسکون رہیں۔ طیر پرندوں کی جماعت کے معنی میں ہے اس کا واحد طائر ہے)

❁ رَأَى الْكَوْكَبَ ظُهْرًا: اس نے دوپہر کے وقت ستارہ دیکھا۔ یعنی اپنے دن کے تاریک ہونے پر اس نے دن کو ہی ستارہ دیکھ لیا۔ (یہ مثل حالات کی شدت پر بیان کی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، دن میں تارے نظر آنے لگے)

❁ إِذَا رَأَيْتَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً فَتَطَامَنْ: جب آندھی سخت دیکھو تو پست ہو جاؤ (یعنی جب کوئی معاملہ تم پر غالب ہوتا نظر آئے تو اس کی اطاعت کر لو۔

❁ رَآهُ الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ: اس کو تو ہر آنے جانے والے نے دیکھا ہے۔ (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جو مشہور ہو اور ہر شخص اس سے واقف ہو ہمارے ہاں: سورج نکلا سب نے دیکھا)

❁ أُرِيْهَا السُّهٰى وَتُرِيْنِي الْقَمَرَ: میں اسے بنات نعش الصغریٰ کا ایک پوشیدہ ستارا دکھاتا ہوں اور وہ مجھے چاند دکھاتی ہے۔ (اس ستارے سے لوگ اپنی آنکھوں کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ظاہری بات میں مغالطہ سے کام لے۔ سہٰی ایک پوشیدہ ستارے کو کہتے ہیں۔ اس ستارے کی پوشیدگی کو چاند کے ظاہر ہونے سے ملایا گیا ہے)

❁ يَرَى الشَّاهِدُ مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ: حاضر وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔

❁ وَكَمَا تَرَانِيْ يَا جَمِيْلُ أَرَاكَ: جمیل! جس طرح تم مجھے جانتے ہو میں بھی تمہیں جانتا ہوں۔

❁ سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَكَ أَمْ حِمَارٌ: جب گرد و غبار چھٹ جائے گا تو تم دیکھ لو گے کہ تمہارے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے کسی کام سے روکا جائے تو وہ اسے کر کے رہے)

❁ أُرِيْهَا نَمِرَةً أُرِكْهَا مَطِرَةً: تو مجھے بادل کو چیتے کے رنگ کا دکھا تو میں تجھے اسے برستا ہوا دکھا دوں گا۔ ھاء کی ضمیر کا مرجع سحابۃ (بادل) ہے۔ سحابۃ نمرۃ وہ بادل ہے جو چیتے کے رنگ کا ہو۔ (مراد یہ ہے کہ جب

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تم کسی چیز کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا آنے والا ہے۔ ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جس کا ہونا یقینی ہو بشرطیکہ اس کی نشانیاں اور ابتدائی علامات ظاہر ہو جائیں)

❁ رَأْيُ شَيْخٍ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِ غلام: بوڑھے کی رائے لڑکے کی موجودگی سے بہتر ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے زمانہ کے تجربات اور معاملات نے دانا اور حکیم بنا دیا ہو)

❁ لا رَأْيَ لِمَنْ لَّا يُطاع: اس شخص کی کوئی رائے نہیں جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ (یہ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے جو انہوں نے اپنے ساتھیوں پر عتاب کرتے ہوئے ایک خطبہ میں فرمایا تھا)

❁ اِنَّ الرَّأْيَ لَيْسَ بِالتَّظَنِّي: بے شک رائے وہ نہیں جو گمان سے قائم کی جائے (معاملہ پر غور و فکر کی ترغیب کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ رَبُّكَ وصاحِبُكَ لاتَكْذِبْ عَلَيْهِما: اپنے آقا اور دوست پر جھوٹ نہ بولو۔

❁ كَالمَرْبُوطِ وَالمَرْعَى خَصِيبٌ: بندھے ہوئے کی طرح، جبکہ چراگاہ سرسبز ہو (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے مال وغیرہ سے دیا گیا اس کا حصہ تھوڑا ہو)

❁ لَوْلاَ المُرَبِّي ماعَرَفْتُ رَبِّي: اگر پرورش کرنے والا نہ ہوتا تو میں اپنے پروردگار کو نہ پہچانتا (یا نہ جانتا)

❁ اِنَّ الرَّثِيئَةَ تَفْشَأُ الغَضَبَ: میٹھا ملا ترش دودھ غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ (رثیئۃ میٹھا ملا ترش دودھ۔ تفشأ: ساکن کرتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص کچھ لوگوں کا مہمان ہوا۔ وہ ان سے ناراض بھی تھا اور بھوکا بھی تھا۔ ان لوگوں نے اسے میٹھا ملا ترش دودھ پلایا تو اس کا غصہ فرو ہو گیا۔ (ایسے تحفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو موافقت کا باعث ہو، خواہ کم ہو)

❁ رَجَعَ بِخُفَّي حُنَيْن: وہ حنین کے موزے لے کر لوٹا (ناکام واپسی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ دیہاتی نے حنین نامی ایک موچی سے موزوں کا بھاؤ کیا لیکن ان دونوں کے بھاؤ پر اختلاف سے حنین کو غصہ آگیا تو اس نے دیہاتی کو فریب دینے کی ٹھانی اور ایک موزہ دیہاتی کے راستے میں ڈال دیا اور دوسرا اس سے کچھ فاصلہ پر پھینک دیا اور دونوں جگہوں کے درمیان گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب دیہاتی ایک موزے کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا یہ حنین کے موزے سے کتنا مشابہ ہے اگر دوسرا بھی ہوتا تو اسے لے لوں۔ اور چل پڑا جب دوسرے موزے کے پاس پہنچا تو پہلے موزے کو چھوڑ آنے پر پشیمان ہوا۔ اپنی اونٹنی کو باندھ کر اس موزے کو لے لیا اور دوسرے موزے کو لینے کے لئے لوٹا۔ اس اثناء میں حنین کمین گاہ سے نکلا۔ اور اونٹنی اور اس پر بار سامان لے کر چلتا بنا۔ جب دیہاتی اپنے لوگوں میں واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ سفر سے کیا لے کر آئے ہو، تو اس نے جواب دیا "حنین کے موزے")

❁ حَتّٰى يَرْجِعَ الدَّرُّ فِي الضَّرْعِ: یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں لوٹ آئے۔ (در: دودھ، ناممکن اور محال چیز کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ حَتّٰى يَرْجِعَ السَّهْمُ علىٰ فُوْقِهِ: یہاں تک کہ تیر اپنے چلے پر لوٹ جائے۔ (کہا جاتا ہے: لاافعل ذلك حتى يرجع السهم على فوقه۔ اس کا معنی ہے میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ کیونکہ جب تیر چلایا جاتا ہے تو وہ آگے جاتا ہے ٹیڑھا نہیں ہوتا نہ ادھر ادھر پڑتا ہے اور اپنے چلے پر واپس نہیں آتا۔ فوق، چلا۔

❁ الرِّجالُ اَرْبَعَةٌ: مرد چار قسموں کے ہوتے ہیں۔ (ایک وہ جو جانتا ہے اور اسے اپنے جاننے کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ عالم ہوتا ہے اس کا اتباع کرو۔ ایک وہ جو جانتا ہے مگر اسے اپنے جاننے کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہ شخص سویا ہوا ہے اسے جگاؤ۔ ایک وہ جو نہیں جانتا مگر اس کو بات کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا یہ شخص طالب ہدایت ہے اس کو تعلیم دو اور ایک وہ جو نہ جانتا ہے اور نہ اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، یہ شخص جاہل ہے اس کو چھوڑ دو۔

❁ هَلْ يُرْتَجَى مَطَرٌ بِغَيْرِ سَحَابٍ: کیا بادل کے بغیر بارش کی امید کی جا سکتی ہے؟

❁ لاتَرْجُ خَيْرَ مَنْ لَّا يَرْجُوْ خَيْرَكَ: اس شخص سے خیر کی امید نہ رکھو جو تمہاری خیر کی امید نہیں رکھتا۔

❁ رَحَلٌ يَعَضُّ غارِبًا مَجْرُوْحًا: کجاوہ زخمی کوہان کو ہی کاٹتا ہے۔ (غارب کوہان کا بالائی حصہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو تنگی میں ہو اور دوسرا اس پر اپنا بوجھ بھی ڈال دے۔

❁ اِرْحَمْ مَنْ دُوْنَكَ يَرْحَمْكَ مَنْ فَوْقَكَ: اپنے سے نیچوں پر رحم کرو تم سے اوپر والے تم پر رحم کریں گے۔

❁ اَرْخَصُ مِنَ التَّمْرِ بِالبَصْرَة: بصرہ میں کھجور سے زیادہ سستا۔

❁ اَرْخَصُ مِنْ تُرابٍ: مٹی سے زیادہ سستا۔

❁ رُدَّ الحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جاءَكَ: پتھر کو وہیں لوٹا دو جہاں سے تمہارے پاس آیا ہو (پتھر کا جواب پتھر سے دو۔ ظلم قبول نہ کرو)۔

❁ مَنْ يَرُدُّ السَّيْلَ علىٰ اَدْراجِه؟: سیلاب کو اس کے راستوں اور بہنے کی جگہوں پر کون لوٹا سکتا ہے؟ (اَدْراجُ السيل سیلاب کے راستے اور بہنے کی جگہیں۔ ناممکن بات کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ بِئْسَ الرِّدْفُ لابَعْدَ نَعَم: ہاں کے بعد نہیں بہت برا تابع ہے۔ ایسا ہی ایک شاعر کا قول ہے:

حَسَنٌ قولُ نَعَم بَعْدَ لا
وقَبِيحٌ قولُ لا بَعْدَ نَعَم

نہیں کے بعد ہاں کہنا اچھا ہے اور ہاں کے بعد نہیں کہنا برا ہے۔

❁ اِذَا رَزَقَكَ اللّٰهُ معرفةً فلاَ تُحْرِقْ يَدَكَ: جب اللہ تعالیٰ تجھے چمچا دے تو اپنا ہاتھ نہ جلانا۔

❁ رِزْقُ اللّٰهِ لاكَدُّكَ: اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، تیری محنت نہیں۔ (یعنی جب اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو تو تیری محنت تجھے فائدہ نہیں پہنچائے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

گی۔ نیز بھلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے نہیں۔ اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جس کی مدد سے خیر حاصل ہو تو وہ اس کا احسان جتائے۔ ایسی حالت میں اس سے کہا جاتا ہے۔ احسان اللہ کا ہے تمہارا نہیں۔

❁ رَزَمَةٌ ولا دِرَّةٌ: اونٹنی کی آواز ہے مگر دودھ نہیں ہے۔ رَزَمَة اونٹنی کی آواز جو بچے کو دودھ پینے کے لئے بلانے پر نکالتی ہے۔ دِرّة دودھ کی کثرت اور اس کا بہنا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو وعدے کرکے پورے نہ کرے)

❁ أَرْسِلْ حَكِيمًا ولا تُوصِهِ: کسی دانا کو قاصد بناؤ اور اس کو حکم نہ دو۔
یہ حضرت زبیر بن عبدالمطلب کے اشعار کا پہلا حصہ ہے۔

إذا كُنتَ فِي حَاجَةٍ مُرْسِلاً
فأَرْسِلْ حكيماً ولا تُوصِهِ

کسی ضرورت میں کسی کو بھیجو تو ایسے شخص کو بھیجو جو دانا ہو اسے حکم نہ دو۔

❁ لا رَسُولَ كَالدِّرْهَمِ: روپے جیسا کوئی قاصد نہیں۔

❁ الرَّشْفُ أَنْقَعُ: چوسنا زیادہ پیاس بجھانے والا (یعنی پانی کو چوسنا منہ لگا کر پینے سے زیادہ سیراب کرنے والا ہے۔ کسی ضرورت کے حصول میں جلد بازی سے کام نہ لینے کے فائدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یہ رشف کے معنے سے ماخوذ ہے جس کا مفہوم پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے چوسنا ہے۔

❁ رَضِيتُ مِنَ الغنيمة بالإياب: میں نے غنیمت کے بدلہ میں واپسی پر قناعت کی۔ (إياب: واپس لوٹنا۔ ناکامی کے بارے میں یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کے لئے دوڑ دھوپ کے باوجود اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہر سلامتی کے ساتھ واپسی پر قناعت کرنے یا اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی ضرورت کی طلب میں بدبختی سے دوچار ہونے پر نجات پانے پر قناعت کرلے۔

❁ رَضِيتُ مِنَ الْوَفَاءِ بِاللَّفَاءِ: میں تھوڑی سی وفا پر راضی ہوں۔ (لَفَاء: تھوڑی چیز کیونکہ میں کسی کے پاس بھی زیادہ ہو وفا نہیں پاتا)

❁ مَنْ رَضِيَ عن نفسِهِ كَثُرَ السَاخِطِينَ عَلَيْهِ: جو اپنے نفس سے راضی ہو گیا اس نے خود پر ناراض لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرلیا۔

❁ إذا تَرَضَّيتَ أَخَاكَ فلا أخالَكَ: جب تو محنت کرکے اپنے بھائی کو راضی کرے تو وہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ (تَرَضِّي محنت اور کوشش کرکے راضی کرنا کے معنی میں ہے۔ مراد اگر بھائی تجھے اپنے کو محنت اور کوشش سے رضامند کرنے اور مدارات پر مجبور کرے تو وہ تیرا بھائی نہیں ہوگا۔)

❁ رِضَا النَّاسِ غَايَةٌ لا تُدْرَكُ: لوگوں کی رضامندی ایسا مقصد ہے جو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ (یعنی آدمی بہر صورت لوگوں سے چھٹکارا نہیں پاسکتا لہٰذا چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے طریقے استعمال کرے اور لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرے)

❁ لا تَكُنْ رَطْبًا فتُعْصَرَ ولا يَابِسًا فتُكَسَّرَ: تو نہ تو اتنا تر ہو جا کہ تجھے نچوڑ لیا جائے اور نہ اتنا خشک کہ تجھے توڑ کر رکھ دیا جائے۔

❁ مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ ظَلَمَ: جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا، اس نے ظلم کیا (یعنی اس نے بکریوں پر ظلم کیا۔ یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے کہ اس نے بھیڑیے کے ذمہ ایسا کام لگایا جو اس کی طبع میں ہی نہیں اور یوں اس نے بھیڑیے پر ظلم کیا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خائن کو انتظام سپرد کرے یا امانت بے ٹھکانا رکھے)۔

❁ مَرْعًى ولا أَكُولَةٌ: چراگاہ تو ہے مگر چرنے والی بکری ہی نہیں۔ (أَكُولَة: اس بکری کو کہا جاتا ہے جسے چرنے اور موٹا ہونے کے لئے علیحدہ کرلیا جائے۔ ایسے مال دار شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کا مال کھانے والا کوئی نہ ہو)

❁ تَحْتَ الرَّغْوَةِ الصَّرِيحُ: جھاگ کے نیچے خالص دودھ (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جس کی حقیقت پوشیدہ رہنے کے بعد ظاہر ہو)

❁ مِنَ الرَّفْشِ إلى العَرْشِ: بیلچے سے تخت تک (کمینہ تھا پھر ترقی کر کے اور بیلچے سے کام کرتے کرتے تخت شاہی پر جا بیٹھا۔)

❁ تَرْفَضُّ عِندَ المُحْفِظَاتِ الكَتَائِفُ: غیرت انگیز موقعوں پر کینے منتشر ہوجاتے ہیں۔ (ترفضُّ بمعنی منتشر ہونا، مُحْفِظَات غیرت کو جوش دلانے والی باتیں، اور كَتَائِف کینے، دشمنیاں، مراد یہ ہے کہ اپنے ساتھ زندگی گزارنے والے پر ظلم ہوتا دیکھ کر تو غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے اور اس سے کینہ اور دشمنی بھول کر اس کی مدد کرنے لگتا ہے۔)

❁ أَرْفَعُ مِنَ السَّمَاءِ: آسمان سے زیادہ بلند

❁ الرَّفِيقَ قَبْلَ الطَّرِيقِ: راستے سے پہلے ساتھی حاصل کر۔ (اور اسے مطلع کر ہوسکتا ہے وہ موافقت نہ کرے اور تو اس کی جگہ کسی اور کو اپنے ساتھ نہ لیجاسکے۔)

❁ بالرِّفَاءِ والبَنِينَ: اتفاق و اتحاد اور بچوں کے ساتھ (شادی کرنے والے کے لئے دعا ہے۔ رِفاء بمعنی موافقت اور مناسبت۔ یہ اس قول سے لیا گیا ہے رَفَأْتُ الثَّوبَ (میں نے کپڑے کے پھٹے ہوئے حصہ کو سی دیا، رفو کردیا)

❁ أَرَقُّ مِنَ النَّسِيمِ: بادِ نسیم سے زیادہ لطیف۔

❁ أَرَقُّ مِنَ المَاءِ: پانی سے زیادہ پتلا۔

❁ أَرَقُّ مِنْ دَمْعِ الغَمَامِ: ابر کے آنسوؤں سے زیادہ پتلا۔

❁ أَرَقُّ مِنْ رَقْرَاقِ السَّرَابِ: سراب کی چمک سے زیادہ لطیف (رقراق السراب بمعنی سیراب کی چمک)

❁ أُرْقُبِ البَيتَ مِنْ رَاقِبِهِ: گھر کے محافظ سے گھر کی حفاظت کر (یہ اس شخص کا قول ہے جسے اپنے گھر میں غلام کی موجودگی سے خوف تھا چنانچہ جب وہ واپس آیا تو وہ غلام اس کا سب سامان لے کر چمپت ہو چکا تھا۔

❁ كَالرَّاقِمِ على الماءِ: پانی پر لکھنے والے کی طرح۔ (اس چیز کے

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لئے کہا جاتا ہے جو نہ تو ایک جگہ ٹھہرے اور نہ اثر انداز ہو)

❁ اِرْقَ عَلٰی ظَلْعِكَ: پہلے اپنے معاملہ کو ٹھیک کر (یا مقدور بھر برداشت کر یعنی اپنی دھمکی میں اپنی حد سے تجاوز نہ کر اور اپنی خامی اور بیکسی کو سامنے رکھ اور اپنے عیب پر خاموش رہ کیونکہ سیڑھیاں چڑھنے والا اگر لنگڑا ہو تو اپنے آپ سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ ظَلَعَ البعیرُ کا معنی ہے اونٹ کا چلنے میں لنگڑانا۔ اس مثل کا معنی ہے مقدور بھر برداشت کر کیونکہ سیڑھیاں یا پہاڑ پر چڑھنے والا اگر لنگڑاتا ہو تو اپنے آپ سے نرمی سے پیش آتا ہے اور خود کو استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا)

❁ رَكِبَ جَنَاحَي النَّعَامَة: وہ شتر مرغ کے بازوؤں پر سوار ہوا (تیز رفتاری اور عجلت کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ يَرْكَبُ الصَّعْبَ مَنْ لا ذَلُولَ لَهُ: سرکش پر تو وہ شخص ہی سوار ہوتا ہے، جس کے پاس سدھایا اونٹ نہ ہو۔ (آسانی سے مقصد حاصل نہ ہو تو آدمی خود کو مشقت پر اکساتا ہے)

❁ مَنْ لَمْ يَرْكَبِ الأَهْوَالَ لَمْ يَنَلِ الآمَالَ: جو شخص خود کو خوفناک خطروں میں نہ ڈالے وہ امیدوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔

❁ كَرَاكِبِ اثْنَيْنِ: دو (جانوروں) پر سواری کی طرح۔ دو معاملوں پر شک وشبہ میں پڑنے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ رَمَى الكلامَ عَلٰى عَوَاهِنِهِ: اس نے کلام کو کھجور کی ٹہنیوں پر دے مارا۔ عَوَاهِن (عاهنة کی جمع) بمعنی کھجور کی خشک شاخیں، مراد یہ ہے کہ اس نے بے پروائی سے بات کی، خواہ درست تھی یا غلط)۔

❁ رَمَاهُ اللّٰهُ بِلَيْلَةٍ لا أُختَ لها: اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رات لائے جس کی بہن نہ ہو (یعنی اسے دوسری رات سے پہلے موت آجائے بددعا ہے)

❁ رَمَاهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ أَكَمَةٍ بحجر: اللہ تعالیٰ اس کو ہر ٹیلے سے پتھر مارے۔ (اس پر چاروں طرف سے پتھر برسیں۔ بددعاء ہے)

❁ رَمَاهُ بِأَقْحَافِ رَأْسِهِ: اس نے اسے اس کے سر کی کھوپڑی پر مارا۔ (یعنی کسی مصیبت سے اسے خاموش کر دیا یا اسے اس پر لوٹا لایا۔ قِحف دماغ کی اوپر کی ہڈی کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اقحاف جمع کے لفظ کے ساتھ لانے کی وجہ یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اس نے اس کی کھوپڑی پر بار بار مارا۔ یہ قتل سے کنایہ ہے۔ گویا اس نے اس سے خاموش کرنے کے انتہائی مقصد (قتل) کو حاصل کر لیا۔ مقتول تو بولتا نہیں۔

❁ رَمَاهُ اللّٰهُ بِثَالِثَةِ الأَثَافِي: اللہ تعالیٰ اس کو چولہے کے تیسرے پتھر مارے (الاثافی) بمعنی پہاڑی کا ٹکڑا جس کے ساتھ دو پتھر رکھ کر ان پر ہنڈیا رکھی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو برائی بالکل نہ چھوڑے کیونکہ اثافی تین پتھر ہوتے ہیں تو اگر اسے تیسرا پتھر بھی مار دیا گیا تو معاملہ انتہا کو پہنچ گیا)

❁ رَمَاهُ اللّٰهُ بِدَاءِ الذِّئْبِ: اللہ تعالیٰ اس کو بھیڑیے کے مرض میں مبتلا کرے۔ (کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ اسے بھوک میں مبتلا کرے کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ بھوکا رہتا ہے)

❁ رَمَاهُ بِنَبْلِهِ الصَّائِب: اس نے اسے نشانے پر لگنے والا تیر مارا۔ (یعنی اپنے مخالف کو مسکت اور منہ توڑ جواب دیا)

❁ رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ: اس نے اپنی بیماری مجھ سے منسوب کر دی اور کھسک گئی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی سے اس عیب کو منسوب کرے جو خود اس میں ہو۔ اِنسلال: جماعت سے نکل جانا۔ رماہ بالداء: کسی کو بیماری سے منسوب کرنا، اس پر بیماری کا عیب لگانا۔

❁ لا تَرْمِ سَهْمًا يَعْسُرُ عَلَيْكَ رَدُّهُ: ایسا تیر نہ چلا جسے تو لوٹا نہ سکے۔

❁ قَبْلَ الرَّمْيِ يُرَاشُ السَّهْمُ: تیر پھینکنے سے پہلے اس کو پر لگایا جاتا ہے۔ (کسی کام کے لئے اس کے آ پڑنے سے پہلے تیاری اور اوزار کی ضرورت پیش آنے سے پہلے اس کو درست کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔ یراش پر پر لگایا جانا کے معنی میں ہے۔ یعنی تیر چلانے کے وقت سے پہلے تیر درست کر لینا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں قَبْلَ الرماء تُمْلأُ الكَنَائِنُ۔ تیر اندازی سے پہلے ترکش بھر لئے جاتے ہیں)

❁ مَا كُلُّ رَامِي غَرَضٍ يُصِيبُ: ہر نشانہ باز نشانہ پر نہیں مار سکتا (غَرَض بمعنی ہدف ہے جو تیر اندازی کے لئے نصب کیا جاتا ہے)

❁ قَبْلَ الرِّمَاءِ تُمْلأُ الكَنَائِنُ: ترکش تو تیر اندازی سے پہلے ہی بھر لیا جاتا ہے (یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے تیاری کر لینا چاہئے۔ رِمَاء رَامَاہ کا مصدر ہے۔ کَنَائِن تیر رکھنے کے تھیلے، ترکش)

❁ رُبَّ رَمْيَةٍ مِنْ غَيْرِ رَامٍ: کبھی تیر اندازی اس کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے جو تیر اندازی نہیں جانتا (یعنی کبھی اناڑی کا تیر بھی نشانہ پر لگ جاتا ہے۔ اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو غلطی کرتا ہو مگر کبھی درست کام بھی کر جائے۔ اس کا ہم معنی یہ قول ہے۔ مَعَ الخَوَاطِي سَهْمٌ صَائِبٌ (خطا کرنے والے تیروں میں نشانہ پر بیٹھنے والا تیر بھی ہوتا ہے)

❁ عِنْدَ الرِّهَانِ تُعْرَفُ السَّوَابِقُ: گھوڑ دوڑ کے وقت ہی آگے نکلنے والے گھوڑوں کی پہچان ہوتی ہے۔ (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جو آزمائش اور امتحان کے بعد ظاہر ہو اور اس کی حقیقت معلوم ہو۔ نیز اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو ایسی خوبی کا دعویٰ کرے جو اس میں نہ ہو)

❁ اِسْتَرَاحَ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ: جس میں عقل نہیں اس نے راحت پائی (عقل والا معاملات میں بہت فکر مند ہوتا ہے اور سوچ بچار کرتا ہے اور کسی بات پر کم ہی خوش ہوتا ہے لیکن بے وقوف کسی بات پر نہ تو سوچ بچار کرتا ہے اور نہ ہی فکر مند ہوتا ہے)

❁ الرَّائِدُ لا يَكْذِبُ أَهْلَهُ: قوم کے لئے پانی اور گھاس کی تلاش میں آگے جانے والا اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ (کیونکہ اگر وہ ان سے جھوٹ بولے گا تو ان کا کام بھی بگاڑے گا اور ان کے ساتھ اپنا بھی)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ أَرْوَغُ مِنْ ثُعَالَةَ: لومڑی سے زیادہ چالباز۔

❁ أَرْوَغُ مِنْ ثَعْلَبٍ: لومڑی سے زیادہ مکار۔

❁ أَرْوَاغًا يَاثُعَالُ وقد عَلِقْتِ بالحبال: لومڑی کیا تو جال میں پھنس کر بھی حیلہ بازی کرے گی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو حق واجب ہونے کے بعد بھی حیلہ بازی سے باز نہ آئے)

❁ أَرْوَى مِنْ حَيَّةٍ: سانپ سے زیادہ سیراب۔ (کیونکہ سانپ ایسے میدانوں میں رہتے ہیں جہاں نہ پانی ہوتا ہے، نہ انسان اور نہ گھاس۔ اس لئے پانی نہیں پیتے اور نہ پانی کی خواہش کرتے ہیں)

❁ أَرْوَى مِنْ ضَبٍّ: گوہ سے زیادہ سیراب۔ (کیونکہ گوہ بالکل پانی نہیں پیتی۔ پیاس لگے تو ہوا کی طرف رخ کر کے منہ کھولتی ہے اور اسی میں سیرابی حاصل کر لیتی ہے۔ عرب کسی ناممکن چیز کے متعلق کہتے ہیں۔ لایکون هذا حتی یَرِدَ الضبُّ جب تک گوہ پانی پر نہ آئے یہ ممکن نہیں)

❁ الرَّاوِيَةُ أَحَدُ الشَّاتِمِيْنَ: بہت روایت کرنے والا گالی دینے والوں میں سے ایک ہے۔ اسی جیسا یہ قول ہے۔

❁ سَبَّكَ مَنْ بَلَّغَكَ: جس نے تجھے کسی کا پیغام پہنچایا۔ اس نے تجھ کو گالی دی)

❁ رُبَّ رَيْثٍ يُعْقِبُ فَوْتًا: بسا اوقات کسی امر میں تاخیر سے اس کا وقت جاتا رہتا ہے۔ (ریث: تاخیر کرنا)

❁ إِنْ كُنْتَ رِيْحًا فَقَدْ لَاقَيْتَ إِعْصَارًا: اگر تو ہوا تھا تو بگولے سے مل گیا۔ (إِعْصَار: بگولہ۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خود پسند اور مغرور ہو اور اس کی اپنے سے زیادہ زیرک اور سخت شخص سے مڈبھیڑ ہو جائے۔ ہمارے ہاں سیر کو سوا سیر مل گیا)

❁ إِنْ أَرَدْتَ الْمُحَاجَزَةَ فَقَبْلَ الْمُنَاجَزَةِ: اگر تو دفاع چاہتا ہے تو لڑائی سے پہلے دفاع کر۔ (محاجزہ کا معنی ایک دوسرے سے اپنا دفاع کرنا ہے۔ مناجزہ نجز سے مشتق ہے اور اسی کا معنی فنا ہے۔ بعض کے نزدیک کسی کے خلاف لڑنا اور مبارزت ہے کیونکہ دونوں مدمقابل لڑنے والوں میں سے ہر ایک دوسرے کو فنا کر دینا چاہتا ہے۔ مثل کا معنی ہے جس شخص کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بچالے۔ اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو لڑائی کے بعد صلح کا طالب ہو)

❁ أُرِيْدُ حِبَاءَهُ وَيُرِيْدُ قَتْلِي: میں تو اس کو عطیہ دینا چاہتا ہوں وہ میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے۔ (حِباء: عطا، بخشش)

❁ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ هِلَاكَ نَمْلَةٍ أَنْبَتَ لَهَا جَنَاحَيْنِ: جب اللہ کسی چیونٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو پر لگا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے: جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں)

❁ مَنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ: جو شخص تیرا ارادہ نہ کرے تو بھی اس کا ارادہ نہ کر)

❁ كَمْ بَيْنَ مُرِيْدٍ وَمُرَادٍ: ارادہ کرنے والے اور مراد میں بڑا فاصلہ ہے۔ عدم اتفاق یا کامیابی کی دشواری کے لئے کہا جاتا ہے۔ تو کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے تو توقع کے خلاف اس سے محروم رہتا ہے۔

ز

❁ جَعَلَ الزُّجَّ قُدَّامَ السِّنَانِ: اس نے نیزہ کی ٹوپی کو نیزہ کی انی کے آگے لگایا۔ (زج نیزہ کی ٹوپی جو اس کے نچلے حصے میں لگائی جاتی ہے۔ سنان: نیزے کی انی (نیزہ کا پھل) اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ادنی کو اعلیٰ پر فوقیت دے۔

❁ إِنْ لَمْ تُزَاحِمْ لَمْ يَقَعْ فِي الْخُرْجِ شَيْءٌ: اگر تو مزاحمت سے گریز کرے گا تو خرجین میں کچھ نہیں جائے گا۔

❁ مَنْ يَزْرَعِ الشَّوْكَ لَا يَحْصُدْ بِهِ الْعِنَبَا: جو کانٹے بوئے گا اس سے انگور کی فصل نہیں کاٹ سکے گا۔ (قطف العنب کہا جاتا ہے حصد العنب نہیں لیکن کہنے والے نے حصد کو زرع کے مقابل رکھا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ جو کسی سے برا سلوک کرے گا وہ اس سے بھی برے سلوک کی توقع رکھے)

❁ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ: جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔

❁ هُوَ أَزْرَقُ الْعَيْنِ: وہ نیلی آنکھ والا ہے یعنی دشمن ہے اس معنی میں کہا جاتا ہے هو أَسْوَدُ الْكَبِدِ: (وہ سیاہ جگر ہے) اور هم صُهْبُ السِّبَالِ وہ سرخ مونچھوں والے ہیں۔ یعنی دشمن ہیں۔

❁ لِكُلِّ زَعْمٍ خَصْمٌ: ہر دعویٰ کا ایک مخالف ہے۔ (جب کوئی شخص ایسی چیز کا دعوی کرے جو اس کی نہ ہو تو کہا جاتا ہے)

❁ زَقَّهُ زَقَّ الْحَمَامَةِ فَرْخَهَا: اس نے اس کو اس طرح چوگا دیا جس سطرح کبوتری اپنے چوزے کو چوگا دیتی ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے قریبی رشتہ دار کی شفقت میں کوتاہی کے بغیر پرورش کرتا ہے۔

❁ إِذَا زَلَّ الْعَالِمُ زَلَّ بِزَلَّتِهِ عَالَمٌ: جب عالم پھسل جائے تو اس کے پھسلنے سے ایک جہاں پھسل جاتا ہے۔

❁ زَلَّةُ الرَّأْيِ تُنْسِي زَلَّةَ الْقَدَمِ: رائے کا پھسلنا قدم کے پھسلنے کو بھلا دیتا ہے۔ (مستقل مزاج عقلمند سے سرزد ہونے والی لغزش کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ لِكُلِّ زَمَانٍ رِجَالٌ: ہر زمانہ کے لئے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔

❁ هُمَا زَنْدَانِ فِي وِعَاءٍ: وہ ایک ہی برتن میں دو آگ سلگانے والے ہیں۔ (ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائی میں یکساں)

❁ أَزْهَى مِنْ غُرَابٍ: کوے سے زیادہ متکبر۔

❁ أَزْهَى مِنْ طَاوُوْسٍ: مور سے زیادہ اترانے والا۔

❁ أَزْهَى مِنْ وَعِلٍ: پہاڑی بکرے سے زیادہ متکبر۔

❁ زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا: ایک دن چھوڑ کر ملنے جایا کر تجھ سے محبت بڑھے گی۔ (غب ایک دن ملنے جانا دوسرے دن نہ جانا روز کا آنا جانا قدر کھو

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دیتا ہے)

❁ الزَّيْتُ فِي العَجِيْنِ لايَضِيْعُ: آٹے میں روغن ضائع نہیں ہوتا۔ (رشتہ داروں سے احسان کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ زَادَ فِي الطُّنبُورِ نَغْمَةً: اس نے طنبور میں ایک نغمہ کا اضافہ کردیا۔

❁ زُيِّنَ فِي عَيْنِ الوَالِدِ وَلَدُهُ: باپ کی نظر میں بیٹا خوبصورت ہوتا ہے (اپنوں کی تحسین کے بارے میں کہا جاتا ہے۔)

س

❁ إِنْ سَأَلَ أَلْحَفَ وإِنْ سُوْئِلَ سَوَّفَ: اگر وہ سوال کرتا ہے تو لپٹ جاتا ہے اور اگر اس سے سوال کیا جاتا ہے تو ٹال دیتا ہے۔

❁ تَسْأَلُنِي اُمُّ الخِيَارِ جَمَلاً
يَمْشِي رُوَيْدًا ويَكُوْنُ أَوَّلاً

ام الخیار مجھ سے ایسا اونٹ مانگتی ہے جو آہستہ چلے اور اول آئے (یعنی ایسی چیز طلب کرتی ہے جو ناممکن ہو)

❁ سَائِلُ اللّٰهِ لا يَخِيبُ: خدا سے مانگنے والا بے نتیجہ نہیں رہتا۔ (لوگوں سے تنفر اور ان سے مانگنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ سَبَّكَ مَنْ بَلَّغَكَ السَّبَّ: جس نے تمہارے پاس گالی پہنچائی اس نے تمہیں گالی دی۔

❁ سُبَّنِي واصْدُقْ: مجھے گالی دو، مگر سچ بولو۔ (مجھے اس کی پروا نہیں کہ تو مجھے گالی دے کیونکہ مجھے اپنا پتہ ہے، جبکہ تو جھوٹ سے گریز کر رہا ہو۔ سچ کی رغبت دلانے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ مَالَهُ سَبَدٌ ولا لَبَدٌ: نہ اس کے بال ہیں نہ اون) سبد: بال، لبد: اون۔ یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔)

❁ سَبَقَ سَيْلُهُ مَطَرَهُ: اس کا سیلاب اس کی بارش سے پہلے ہی آ گیا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو دھمکی سے پہلے ہی کارروائی کر ڈالے)

❁ سَبَقَ السَّيْفُ العذلَ: تلوار ملامت سے سبقت لے گئی (یہ ضبّة بن ادّ نے حرم میں اپنے بیٹے کے قاتل کو قتل کرنے پر لوگوں کی طرف سے ملامت پر کہا تھا)

❁ سَبَقَ دِرَّتَهُ غِرَارُهُ: اس کے دودھ کی قلت اس کے دودھ کی کثرت سے سبقت لے گئی (غرار: دودھ کی قلت، (درہ: دودھ کی کثرت: یعنی اس کی برائی اس کی بھلائی سے پہلے وقوع پذیر ہوئی اور احسان سے پہلے اس نے خباثت شروع کردی۔)

❁ مَنْ سَابَقَ الدَّهْرَ عَثَرَ: جو زمانہ سے آگے بڑھا پھسل گیا۔ (ٹھوکر کھائی)

❁ مَا اِسْتَتَرَ مَنْ قَادَ الجَمَلَ: جو اونٹ کو آگے سے کھینچ کر لے جائے وہ چھپا نہیں رہے گا۔

❁ سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ: موسم گرما کا بادل جلد ہی چھٹ جاتا ہے۔ (تقشع، تتقشع کی جگہ ہے۔ اس کا معنی غائب ہو جانا، چھٹ جانا ہے۔ (اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو تھوڑی دیر

رہے)

❁ لَمَّا اِشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي: جب اس کی کلائی سخت ہوگئی تو اس نے مجھے ہی تیر مارا۔ (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے پر احسان کرنے والے پر برائی کا ارتکاب کرے۔ پورا شعر یوں ہے۔ اُعَلِّمُهُ الرِمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ، فَلَمَّا اِسْتَدَّ ساعدُهُ رمانی۔ پہلے مصرعہ کا معنی ہے میں اس کو ہر روز تیر اندازی سکھاتا تھا)

❁ السِرُّ اَمَانَةٌ: بھید ایک امانت ہے۔

❁ سِرُّكَ مِنْ دَمِكَ: تیرا راز تیرے خون سے متعلق ہے۔ (مراد بسا اوقات افشائے راز موت کا سبب بن جاتا ہے)

❁ مَالَهُ سَارِحَةٌ ولارَائِحَةٌ: اس کے پاس نہ چرنے والے مویشی ہیں نہ چر کر واپس لوٹنے والے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ سارحۃ: چرنے والے مویشی۔ رائحۃ: چر کر شام کو واپس آنے والے مویشی)

❁ أَسْرَعُ مِنَ البَرْقِ: بجلی سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنَ البَيْنِ: جدائی سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنَ الطَّرْفِ: نگاہ سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنَ اللمحِ: نظر سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنْ لَمْحِ البَصَرِ: آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنْ رَجْعِ الصَدَى: صدائے بازگشت سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنَ اليَدِ إِلَى الفَمِ: منہ کی طرف اٹھنے والے ہاتھ سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ يَسْرِقُ الكُحْلَ مِنَ العَيْنِ: وہ آنکھ سے سرمہ چراتا ہے۔

❁ أَسْرَى مِنَ الخيالِ: خیال سے زیادہ چلنے والا۔

❁ السَعِيدُ مَنْ كُفِيَ: نیک بخت وہ ہے جس کی تمام ضروریات پوری ہوگئیں۔

❁ بِالسَّاعِدِ يَبْطُشُ الكَفُّ: کلائی کے ذریعے ہی ہاتھ کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ (یعنی دولت اور طاقت سے جو چاہے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ نیز مدد گاروں کی کمی پر بھی کہا جاتا ہے۔ اس مفہوم کا حامل یہ شعر بھی ہے:

اُولَئِكَ إِخْوَانِي الَّذِيْنَ رُزِئْتُهُمْ
وَمَا الكَفُّ الاإِصْبَعٌ ثمّ إِصْبَعُ

(یہ میرے بھائی ہیں جن سے میں بھلائی حاصل کرتا ہوں، ہاتھ تو انگلیوں کا مجموعہ ہے)

❁ مَالَهُ سَعْنَةٌ ولا مَعْنَةٌ: اس کے پاس تھوڑا بہت کچھ بھی نہیں (سعنۃ کھانے وغیرہ کی کثرت، معنۃ: کھانے وغیرہ کی کمی؟

❁ مَنْ سَعَى رَعَى: جو دوڑا اس نے چر لیا۔ (جس نے کوشش کی اس نے پا لیا)

❁ رُبَّ سَاعٍ لِقَاعِدٍ: کئی لوگ بیٹھے ہوئے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ (اس کا اولین قائل نابغہ زیبانی ہے۔ نعمان بن منذر کے پاس

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

عربوں کے کئی وفد آئے ان میں بنی عبس کا شقیق نامی شخص بھی تھا، جس کی اس کے ہاں وفات ہوگئی۔ نعمان نے ان وفود کو عطیے دیئے تو اس نے شقیق کے گھر والوں کے لئے ایسا ہی ایک عطیہ بھیجا۔ جب نابغہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے یہ بات کہی جو ضرب المثل بن گئی۔

❁ يَسْتَفُ التُّرابَ ولا يَخضَعُ لِأَحَدٍ عَلَى بَابٍ: وہ خاک پھانکتا ہے مگر کسی کے دروازے پر نہیں جھکتا (خوددار کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ سَفِيهٌ لَمْ يجد مُسَافِهًا: بے وقوف کا کسی گالی دینے والے سے واسطہ نہیں پڑا۔

❁ حَيْثُما سَقَطَ لَقَطَ: وہ جہاں کہیں گرا وہیں سے کچھ نہ کچھ اٹھالیا۔ (حیلہ ساز اور چالاک شخص کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ لِكُلِّ ساقِطَةٍ لاقِطَةٌ: ہر گرنے والی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا مل جاتا ہے (منہ سے نکلنے والی ہر بات کو لے اڑنے والا کان ہوتا ہے۔ گفتگو میں احتیاط برتنے کے لئے کہا جاتا ہے ہمارے یاں: دیوار کے بھی کان ہیں)

❁ يَسْقِي مِنْ كُلِّ يَدٍ بِكَأْسٍ: وہ ہر ہاتھ سے ایک پیالہ پی لیتا ہے۔ بہت زیادہ متلون مزاج کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ سَاقِيَةٌ لاتُعَكِّرُ بَحْرًا: چھوٹی نہر سمندر کو گدلا نہیں کر سکتی۔

❁ سَكَتَ أَلْفًا ونَطَقَ خَلْفًا: وہ ہزار بار خاموش رہا، بولا تو منہ سے بری بات نکلی۔ (خَلْف: بری بات وغیرہ۔ الفا مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی یہ سکت الف سکتة ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو طویل خاموشی کے بعد بولے تو اس کے منہ سے کوئی اچھی بات نہ نکلے)

❁ السكوتُ أخو الرِضا: خاموشی رضامندی جیسی ہے۔

❁ رُبَّ سُكُوتٍ أَبْلَغُ من كلام: بہت سی خاموشیاں کلام سے زیادہ بلیغ ہوتی ہیں۔

❁ رُبَّما كَانَ السكوتُ جوابًا: بعض اوقات خاموشی ہی جواب ہوتی ہے۔

❁ سَلْحُ الحُبارَى سِلاحُهُ: تغدار کا بیٹ کرنا اس کا ہتھیار ہے۔ (یہ پرندہ حملہ آور سے بیٹ کر کے ہی بچتا ہے۔ کیونکہ یہ اپنا گھونسلہ درخت کے بالائی حصہ پر بناتا ہے۔ جب کوئی درخت پر چڑھتا ہے تو اس کے چہرہ پر بیٹ کر دیتا ہے تو وہ اپنے آپ میں مشغول ہونے کی وجہ سے اوپر چڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔)

❁ سِلاحُ الضُّعَفاءِ الشِّكايَةُ: کمزوروں کا ہتھیار شکایت ہے۔

❁ أَسْلَحُ مِنَ الحُبارَى: تغدار سے زیادہ بیٹ کرنے والا۔ (تغ دار بہت بیٹ کرتا ہے اور جب چاہے بیٹ کر دیتا ہے۔

❁ السُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِي أَرْضِهِ: بادشاہ خدا کی زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ (یعنی ہر مظلوم اس سایہ میں ٹھکانہ لیتا ہے۔

❁ لاسُلْطَانَ بلارِجَالٍ: بغیر آدمیوں کے حکمرانی نہیں ہوسکتی۔

❁ لَيْسَ لِسُلْطَانِ العِلمِ زَوَالٌ: علم کی طاقت لازوال ہے۔

❁ مَنْ سَلَكَ الجَدَدَ أَمِنَ العِثارَ: جو شخص ہموار زمین پر چلے گا وہ پھسلنے (ٹھوکر لگنے) سے محفوظ رہے گا۔ (جَدَد: ہموار زمین)

❁ إن سَلِمْتَ مِنَ الأسَدِ فَلا تَطْمَعْ فِي صَيْدِهِ: اگر تو شیر سے بچ جائے تو اس کے شکار کا لالچ نہ کر۔

❁ مَنْ سَلِمَتْ سَرِيرَتُهُ سَلِمَت عَلانِيَتُهُ: جس کا راز محفوظ رہا اس کی کھلی ہوئی باتیں بھی محفوظ رہیں گی۔

❁ إنْ تَسْلَمِ الجِلَّةُ فَالنِّيبُ هَدَرٌ: اگر بڑے اونٹ بچ جائیں تو بوڑھی اونٹنیاں رائیگاں ہیں) جلّة: جلیل کی جمع ہے مراد بڑے اونٹ، مراد یہ ہے کہ اگر نفع آور چیز بچ جائے تو بے کار چیز کی قدر نہیں ہوتی)

❁ السَّلامَةُ غَنِيمَةٌ: سلامتی غنیمت ہے۔

❁ إنَّ السلامَةَ مِنها تَرْكُ مافيها: دنیا سے بچنا دنیا کی چیزوں کو چھوڑنے میں ہے۔ (منها اور فيها کا مرجع دنیا ہے۔ یہ شعر کا دوسرا مصرعہ ہے۔ پہلا یہ ہے۔ والنفسُ تَكْلَفُ بالدُّنْيا وقَدْ عَلِمَتْ نفس دنیا کا عاشق ہے اور اسے معلوم ہو چکا ہے کہ (أنَّ السلامةَ مِنها تركُ مافيها: دنیا سے بچنا دنیا کی چیزوں کو چھوڑنے کے مترادف ہے)

❁ أَسْمَحُ مِنْ لاقِطَةٍ: پرندہ سے زیادہ سخی (لاقطة: چونچ سے دانے چگنے والا پرندہ اس کی مادہ اپنے چوزے کو چوگا دیتی ہے اور اس کے پوٹے میں اپنے لے ء کچھ نہیں بچتا۔ یہ مثل سخاوت کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے)

❁ لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْنادَيْتَ حَيًّا: اگر تو کسی زندہ کو پکارتا تو اس کو سنا دیتا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے نصیحت کی جائے تو وہ اسے قبول نہ کرے اور نہ سمجھے)

❁ أَسْمَعُ جَعْجَعَةً ولا أرَى طِحْنًا: میں چکی کی گڑگڑاہٹ تو سنتا ہوں مگر آٹا نظر نہیں آتا۔ (یعنی شور و غل تو مجھے سنائی دیتا ہے مگر عمل دکھائی نہیں پڑتا۔ (بزدل کے لئے کہا جاتا ہے جو دھمکی دیتا ہے مگر اس کو عملی جامہ نہیں پہناتا اور کنجوس کے لئے کہا جاتا ہے جو وعدہ کرتا ہے مگر وعدہ وفا نہیں کرتا)

❁ أَنْ تَسْمَعَ بِالمُعَيْدِيّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَراهُ: تیرا معیدی کو سننا اس کے دیکھنے سے بہتر ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی خبر سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہو۔ سب سے پہلے یہ بات منذر بن ماء السماء نے کہی تھی جو مشقہ بن ضمرہ معیدی کے متعلق باتیں سن کر خوش ہوتا تھا۔ مشقہ بدصورت تھا اسے دیکھ کر یہ بات کہی جو اوپر مذکور ہے اور ضرب المثل بن گئی ہے)

❁ إذا لَمْ تُسْمِعْ فَأَلْمِعْ: جب تو سنا نہ سکے تو اشارہ ہی کر دیا کر۔ (یعنی اگر تو سنانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اشارہ کرنے سے تو عاجز نہیں۔

❁ إِسْمَعْ ولا تُصَدِّقْ: سن لے خواہ اسے سچا نہ سمجھے۔

❁ سَامِعًا دَعَوْتَ: تو نے سننے والے کو ہی پکارا ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

❁ بَیْنَ سَمْعِ الْأَرْضِ و بَصَرِھا: زمین کے کان اور آنکھ کے درمیان (یعنی چپ چپاتے۔کہا جاتا ہے۔ کَانَ فِعلُ ذلك بَیْنَ سمعِ الارضِ و بَصَرِھا وہ کام ایسی جگہ ہوا جو خالی تھی اور وہاں کوئی نہ تھا)

❁ أَسْمَعُ مِنْ قُراد: چیچڑی سے زیادہ سننے ولا۔ (کہا جاتا ہے کہ چیچڑی ایک دن کی مسافت سے اونٹوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر ان کی طرف چل پڑتی ہے)

❁ قَدِ اِسْتَسْمَنْتَ ذَاوَرَمٍ: تو نے ورم والے کو موٹا سمجھ لیا ہے (اور اسے بڑا سمجھ بیٹھا ہے حالانکہ وہ بڑا نہیں اور خلاف حقیقت ظاہر سے دھوکا کھایا ہے)

❁ سَمْنُکُمْ ھُرِیقَ فِی أَدِیمِکُمْ: تمہارا گھی تمہاری کھال میں ہی انڈیل دیا گیا ہے (مراد یہ ہے کہ تمہارا مال تم پر ہی خرچ کیا جاتا ہے اور تمہارا مال صرف تمہاری طرف ہی لوٹے گا اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کا مال دوسروں تک نہ پہنچ پائے اور اسی پر خرچ ہو)

❁ أَسْمَنُ مِنْ یَعْرٍ: یعر سے زیادہ موٹا (یعر ایک فربہ جانور)

❁ مَنْ لِی بِالسَّانِحِ بَعْدَ البَارِحِ: منحوس کے بعد میرے لئے کون مبارک ہوگا۔ (سانح دائیں طرف سے آنے والا۔ بارح بائیں طرف سے آنے والا۔ عرب سانح سے نیک فالی اور بارح سے بدفالی لیتے تھے۔ناپسندیدہ چیز کے بعد محبوب چیز کی توقع یا بہتر حالات سے مایوسی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

❁ کَانَ سَنْدَانًا فَصَارَ مِطْرَقَةً: وہ اہرن تھا، پھر ہتھوڑا بن گیا۔ (ایسے ذلیل کے متعلق کہا جاتا ہے جو معزز ہو جائے)

❁ إِذَا کُنْتَ سَنْدَانًا فَاصْبِرْ وإذَا کُنْتَ مِطْرَقَةً فَأَوْجِعْ: اگر تو اہرن ہے تو صبر کر اور اگر ہتھوڑا ہے تو درد پہنچا۔

❁ أَسْھَرُ مِنَ النجم ستارے سے زیادہ جاگنے والا۔

❁ أَسْھَرُ مِنْ قُطْرُبٍ: قطرب سے زیادہ جاگنے والا۔ (قطرب ایک چھوٹا جانور ہے جو رات کو نہیں سوتا)

❁ سَھْمٌ لَكَ وَسَھْمٌ عَلَیْكَ: ایک تیر تیرے حق میں اور دوسرا تیر تیرے خلاف۔

❁ أَسَاءَ سَمْعًا فَاَسَاءَ اِجَابَةً: اس نے غلط سنا تو غلط ہی جواب دیا۔

❁ أَسَاءَ کَارِهٌ مَاعَمِلَ: ناپسند کرنے والے نے برا کام کیا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی کام پر مجبور کیا جائے تو وہ اسے اچھی طرح نہ کر سکے)

❁ أَسَاءَ رَعْیًا فَسَقَی: اس نے بری طرح چرایا پھر پانی بھی پلایا۔ (اصل اس کی یہ ہے کہ چرانے والے نے اونٹوں کو تھوڑا چرا کر جب انہیں ان کے مالکوں کے پاس واپس لانے کا ارادہ کیا تو اسے یہ بات اچھی نہ لگی کہ مالکوں کو اونٹوں پر اس کے برے اثرات کا پتہ چل جائے تو اس نے ان کو پانی پلا دیا تاکہ اونٹوں کے پیٹ پانی سے بھر جائیں۔ ایسے شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کام صحیح نہ کرے اور پھر اس کو ٹھیک کرنا چاہے اور یوں اسے اور بھی زیادہ بگاڑ دے)

❁ سُوْءُ الظَنِّ مِنْ شِدَّةِ الضِنِّ: بدگمانی انتہائی بخل کا نتیجہ ہوتی ہے (یہ عربوں کے اس قول جیسا ہے: إنَّ الشَفِیقَ بِسُوءِ ظَنٍّ مُوْلَعٌ مہربان شخص بدگمانی کے بارے میں بہت پرجوش ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھ کے معاملات کا خیال رکھتا ہو۔ اور اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہو کہ کہیں ساتھی کسی حادثہ کا شکار نہ ہو جائے جیسے ماؤں کے دل میں اپنی اولاد کے متعلق برے برے خیال آتے رہتے ہیں)۔

❁ سَیِّدُ الْقَوْمِ أَشْقَاھُمْ: قوم کا سردار اپنی قوم کا سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ (کیونکہ وہ اپنے قبیلہ کے بغیر سختیوں کا حصہ دار بنتا ہے۔ ان میں سے کمزوروں کے لئے لڑتا ہے، بے کسوں کی بات کرتا ہے، اور ایسے کام کرنے کے لئے تیار رہتا ہے جو اس کا فرض نہیں ہوتا۔

❁ مَا کُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً: ہر سیاہ چیز کھجور نہیں ہوتی۔ (شک وشبہ کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ سیاہ چیز کھجور بھی ہو سکتی ہے، اور کوئلہ کا ٹکڑا بھی۔ ایسا ہی یہ مثل ہے۔ مَا کُلُّ بَیْضَاءَ شَحْمَةً۔ ہر سفید چیز چربی کا ٹکڑا نہیں ہوتی)

❁ لَوْذَاتُ سِوَارٍ لَطَمَتْنِی: کاش مجھے طمانچہ کسی کنگن والی نے مارا ہوتا۔ (یہ بات حاتم طائی نے اس وقت کہی تھی جب وہ بنی غزة کے پاس اس قیدی کی جگہ قید تھا جسے اس نے فدیہ دے کر چھڑایا تھا۔ اور ایک لونڈی نے اسے طمانچہ مارا تھا۔ عربوں کے ہاں لونڈیاں زیورات نہیں پہنتیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی آزاد عورت نے طمانچہ مارا ہوتا تو مجھے یہ معاملہ نسبتاً آسان ہوتا۔ یہ بہتر صورت کے حالات کے مقابلہ میں گھٹیا صورت اختیار کرنے پر یا کم رتبہ شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔

❁ مَنْ سَاوَاكَ بِنَفْسِهِ مَاظَلَمَكَ: جس نے تجھے اپنے آپ کے برابر رکھا اس نے تجھ پر ظلم نہیں کیا۔

❁ سَاوَاكَ عبدُ غَیْرِكَ: تیرے غیر کا غلام تیرے برابر ہے (کیونکہ وہ تیری حکم بردار سے تیری طرح آزاد ہے اس مفہوم کے متعلق عوام کہتے ہیں۔ عَبْدُ غیرك حُرٌّ مِثْلُكَ۔

❁ إِنْ اِسْتَوَی فِسِکِّیْنٌ و اِنْ اِعْوَجَّ فَمِنْجَلٌ: اگر وہ سیدھا ہو تو چھری ہے اور ٹیڑھا ہو جائے تو درانتی ہے۔

❁ سِرْ و قَمَرٌ لَكَ: چلا جا چاند تیری رہنمائی کے لئے ہے۔ (یعنی چاند نکلا ہوا ہو تو اس کی روشنی میں کام کرنے کو غنیمت جان۔ فرصت کو غنیمت جاننے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ سِیْرَةُ الْمَرْءِ تُنْبِیْ عَنْ سَرِیْرَتِهِ: آدمی کی عادت اس کے چھپے ہوئے خیال کا پتہ دیتی ہے۔

❁ سَیْرَیْنِ فی خُرْزَةٍ: دو تسمے ایک سوراخ میں۔ (سیرین کا نصب اس سے پہلے۔ اجمع محذوف سمجھے جانے کی وجہ سے۔ ایک پنتھ دو کاج)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ سَالَ بِهِمُ السَّيْلُ وجَاشَ بِنَا الْبَحْرُ: ان کوسیلاب بہالے گیااور ہم کوسمندر کی سخت تیزی۔ یعنی ہم ان سے بھی زیادہ شدید مصیبت میں پڑ گئے۔

❁ سِيْلَ بِهِ وهو لا يَدْرِي: اس کو بہالے جایا گیا لیکن اسے خبر ہی نہیں (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے اس کی مخصوص چیزوں میں نقصان ہو جائے اور وہ غافل رہے۔

ش

❁ أَشْأَمُ مِنْ بَرَاقِش: براقش سے زیادہ منحوس۔ (براقش اس کتیا کا نام ہے جو اس لشکر پر بھونکی تھی جو کتیا والوں کی تلاش میں تھا اور کتیا کے بھونکنے سے لشکر کو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں)

❁ أَشْأَمُ مِنَ الْبَسُوس: بسوس سے زیادہ منحوس۔ (بسوس منقذ تمیمیہ کی بیٹی تھی جو جساس بن مرہ بکری کی خالہ تھی۔ وہ اپنے پڑوسی کی اونٹنی کلیب بن وائل تغلبی کی چراگاہ میں چرا رہی تھی۔ کلیب نے اونٹنی کو تیر مارا بسوس نے جساس سے مدد طلب کی تو اس نے بڑھ کر کلیب کو قتل کر دیا۔ کلیب کا بھائی مہلہل بنی تغلب کے سردار کی حیثیت سے کلیب کے قصاص کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے نتیجہ میں بکر اور تغلب کے درمیان جنگ چھڑ گئی جو چالیس سال تک جاری رہی۔ یوں بسوس نحوست میں ضرب المثل بن گئی)

❁ أَشْأَمُ من حَفَّار: گورکن سے زیادہ منحوس۔ (حفار سے مراد حفار القبور ہے)

❁ أَشْأَمُ مِنْ داحِس: داحس سے زیادہ منحوس (داحس قیس بن زہیر کا گھوڑا تھا (نحوست میں اس کے ضرب المثل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے ذبیان اور عبس کے درمیان جنگ چالیس سال جاری رہی)

❁ أَشْأَمُ مِنْ رَغِيفِ الحَوْلَاءِ: حولاء کی روٹی سے زیادہ منحوس (حولاء ایک عرب عورت تھی ایک شخص نے اس کے سر سے ایک روٹی اچک لی تو اس نے کہا۔ بخدا تو نے ایسا کر کے فلاں کی توہین کرنا چاہا ہے، جو اس شخص کا پڑوسی تھا۔ اس سے ان لوگوں میں اشتعال پیدا ہو گیا، جس کے نتیجہ میں ان کے ایک ہزار انسان قتل ہوئے)

❁ أَشْأَمُ مِنْ طُوَيْس: طویس سے زیادہ منحوس۔ (طویس کہا کرتا تھا: میں اس روز پیدا ہوا جس دن رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی۔ جس دن حضرت ابوبکرؓ کی وفات ہوئی اس دن میری ماں نے میرا دودھ چھڑایا۔ جس دن عمر بن خطابؓ کو شہید کیا گیا اس دن میں بالغ ہوا اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کے دن میں نے شادی کی۔ اور حضرت علیؓ بن ابی طالب کی شہادت کے دن میرے ہاں بچہ پیدا ہوا)

❁ أَشْأَمُ مِنْ عِطْرِ مَنْشِمَ: منشم کے عطر سے زیادہ منحوس (اس مثل کی اصل کے متعلق کہا گیا کہ منشم ایک عورت کا نام تھا جو خوشبو بیچا کرتی تھی۔ عرب اس کی خوشبو میں ہاتھ ڈبو کر عہد کرتے کہ جس جنگ میں وہ جا رہے ہیں جان پر کھیل کر لڑیں گے حتی کہ وہ قتل ہو جائیں۔ چنانچہ جب جنگ میں قدم رکھتے، کہا جاتا: دقّوا بينهم عِطْرَ مَنْشِمَ (انہوں نے اپنے درمیان منشم کا عطر ظاہر کیا۔ اس بات کے بکثرت کہنے سے یہ ضرب المثل بن گیا)

❁ أَشْأَمُ مِن غُرابِ الْبَيْنِ: جدائی کے کوئے سے زیادہ منحوس۔ کوے سے یہ نام لازم وملزوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بدوی لوگ چراگاہ کی تلاش میں جدا ہونے لگتے تو کوے ان کے خیموں کی جگہ نیچے اتر کر کھانے کی اشیاء ڈھونڈنے لگتے۔ اس لئے اس سے بدفالی لے کر کوے کو غراب البین (جدائی کا کوا کہنے لگے۔ کیونکہ کوے ان کے خیموں کی جگہوں پر اس وقت اترا کرتے تھے جب وہ کسی جگہ سے جدا ہو کر کہیں جاتے)

❁ مَنْ شَبَّ عَلَى خُلُقٍ شَابَ عليه: جس عادت پر کوئی جوان ہوا اسی پر بوڑھا ہو گیا۔

❁ الشَّبَابُ مَطِيَّةُ الْجَهْلِ: جوانی جہالت کی سواری ہے۔ (یعنی جہالت جوانی کی منزل اور مشکوک مرکز ہے)

❁ الشَّبْعَانُ يَفُتُّ لِلْجَائِعِ فَتًّا بَطِيْئًا: پیٹ بھرا بھوکے کے لئے آہستہ آہستہ روٹی توڑتا ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو دوسرے شخص کے معاملہ کو کوئی اہمیت نہ دے اور نہ اس کا راستہ اختیار کرے۔

❁ إِنَّ هَذَا الشِّبْلَ مِنْ ذالك الاسد: یہ بچہ بھی تو اسی شیر کا ہے۔

❁ مَنْ أَشْبَهَ أباه فما ظَلَمَ: جو اپنے باپ کے مشابہ ہو اس نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ (اس لڑکے کے لئے کہا جاتا ہے جو ساخت اور طبیعت میں اپنے باپ جیسا ہو۔ (کیونکہ اس نے مشابہت کو غلط جگہ نہیں رکھا۔ کوئی بیٹے کی اپنے باپ سے مشابہت میں اس سے زیادہ مستحق نہیں۔

❁ أَشْبَهُ من الماء بالماء: وہ اس سے زیادہ مشابہ ہے جتنا پانی پانی سے مشابہ ہے۔

❁ إِنَّهُ لَأَشْبَهُ بِهِ مِنَ التَّمْرَةِ بالتَّمْرَةِ: وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ مشابہ ہے جتنا ایک کھجور دوسری کھجور سے مشابہ ہوتی ہے۔ (دو چیزوں میں قریبی مشابہت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ مَا أَشْبَهَ حَجَلَ الجبالِ بِأَلْوَانِ صُخُورِها: پہاڑی تیتر پہاڑ کی چٹانوں کے رنگ سے کتنا مشابہ ہے۔

❁ مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بالبَارِحَةِ: آج کی رات گزشتہ رات سے کتنی مشابہ ہے۔ (آئندہ کی سابقہ سے مشابہت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ الشُّبْهَةُ أُخْتُ الحَرَامِ: شبہ حرام کی بہن ہے۔ (ان دو چیزوں کے لئے کہا جاتا ہے جن کے مابین زیادہ فرق نہ ہو)

❁ يَشُجُّ مَرَّةً ويَأْسُو أُخْرَى: ایک بار زخم لگاتا ہے دوسری بار غمخواری کرتا ہے۔ (یعنی کبھی زخمی کرتا ہے کبھی علاج کرتا ہے۔ احسان بھی کرتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے)

❁ أَشْجَعُ مِنْ لَيْثٍ: شیر سے زیادہ بہادر

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

❁ أَشْجَعُ مِنْ أُسامة: شیر سے زیادہ بہادر (اسامہ، شیر کا اسم علم ہے)

❁ الشُّجاعُ مُوَقّى: بہادر کی اذیت سے بچا جاتا ہے (اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بہادری اور جرأت سے پہچانا جاتا ہو لوگ اس سے خوف کھانے کی وجہ سے اس سے بچتے ہیں۔ اس معنی میں ایک شاعر کا قول ہے

تَعْدُو الذِئابُ عَلَى مَنْ لاكِلابَ لَهٗ
وتتقى مَرْبَضَ الْمُسْتَنْفِرِ الحَامِي

جس کے پاس کتے نہ ہوں اس پر بھیڑیے حملہ کر دیتے ہیں اور اس باڑہ سے بچتے ہیں جو بچانے والے کا ہو۔

❁ إنْ لَمْ يَكُنْ شَحْمٌ فَنَفَشٌ: اگر چربی نہ ہو تو اون ہی سہی (نفش بمعنی اون یعنی اگر فعل نہیں تو دکھلاوا ہی ہو یعنی حقیقت کو نظر انداز کر کے نظر بظاہر بھلائی کا اظہار)

❁ شُخْبٌ فی الإنا و شُخْبٌ فی الأَرْضِ: دودھ کی ایک دھار برتن میں اور ایک زمین پر (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کبھی درست کام کرے کبھی غلط۔ اس مثل کی اصل اس دودھ دوہنے والے کے بارے میں ہے جو کبھی غلطی سے ایک دھار زمین پر گرائے اور کبھی صحیح طور پر برتن میں۔ الشخب دودھ کی تھن سے نکلنے والی دھار۔

❁ ولَمَّا اِشْتَدَّ سَاعِدُهٗ رمانی: جب اس کی کلائی مضبوط ہوگئی تو اس نے مجھے ہی تیر مارا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس سے احسان کیا گیا ہو اور وہ احسان کرنے والے کو نقصان پہنچائے۔ اس شعر کا پہلا مصرعہ یوں ہے۔

أُعَلِّمُهُ الرِمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ میں اسے ہر روز تیر اندازی سکھایا کرتا تھا)

❁ أَشَدُّ حُزْنًا مِنَ الخَنْسَاءِ عَلَى صخر: صخر پر غم کرنے والی خنساء سے بھی زیادہ غمگین (صخر ابن عمر سلیمی نے بنی اسد پر حملہ کیا تھا اس دوران سے اسے تیر لگا جس سے بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کی بہن خنساء نے اس کی قبر پر ڈیرہ جمالیا جہاں وہ اس پر روتی رہتی اور آہ و بکار کرتی اور درد ناک مرثیے کہے اور وہیں مرگئی)

❁ لِلشَّدَائِدِ تُذْخَرُ الرِجَالُ: سختیوں کے لئے مردوں کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

❁ عِنْدَ الشَدَائِدِ تَذْهَبُ الأَحْقَادُ: مصائب کے وقت دشمنیاں جاتی رہتی ہیں۔

❁ عِنْدَ الشَدَائِدِ تُعْرَفُ الإِخْوَانُ: سختیوں کے وقت ہی بھائیوں کی پہچان ہوتی ہے۔

❁ شَرُّ أَيَّامِ الدِيْكِ يَوْمَ تغسلُ رِجْلاهُ: مرغ کا بدترین دن وہ ہوتا ہے جس دن اس کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں (یہ اس وقت ہوتا جب مرغ ذبح کرنے کے بعد بھوننے کے لئے تیار کیا جاتا ہے)

❁ شَرُّ الرَّأْيِ الدَبَرِيُّ: بدترین رائے وہ ہے جو بعد میں سوجھے جب وقت گزر چکا ہو)

❁ شَرُّ الشَدَائِدِ مايُضْحِكُ: بدترین سختی وہ ہے جو ہنسائے۔ (اس سختی کے لئے کہا جاتا ہے جو بے وقت اور غلط طور پر آئے اور سختی میں مبتلا اس پر ششدر ہو اور اس کی ہنسی اڑائی جائے)۔

❁ شَرٌّ مِنَ الشَرِّ فَاعِلُهٗ: برائیوں میں سے ایک برائی خود برائی کرنے والا ہے۔ (بلائے ناگہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ شَرُّ النَاسِ مَنْ يَتَّقِيْهِ الناسُ: بدترین شخص وہ جس سے لوگ خود کو بچائیں۔

❁ شَرٌّ مِنَ المَوْتِ مايُتَمَنّٰى مَعَهُ المَوْتُ: موت سے بری تو وہ مصیبت ہے جس پر موت کی تمنا کی جائے۔

❁ شَرُّ النَاسِ مَنْ دَارَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهٖ: بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لئے لوگ اس کی خوشامد کریں۔

❁ شَرُّ النَاسِ مَنْ لايُبَالِي أن يَرَاهُ الناس مُسِيئًا: بدترین شخص وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اسے بدی کرتے ہوئے دیکھ لیں گے۔

❁ الشَرُّ أَخْبَثُ مَا أَوْعَيْتَ مِنْ زَادِ: برائی ہی وہ سب سے برا توشہ ہے جو تو نے ساتھ رکھا۔ (تحقیر اور برائی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ شعر کا پہلا مصرعہ یہ ہے کہ: الخيرُ يَبْقَى وَإِنْ طَالَ الزمانُ بِهِ (خیر باقی رہتی ہے، خواہ کتنا عرصہ ہی گزر جائے)

❁ الشَرُّ قليلُهٗ كثير: برائی تو تھوڑی بھی بہت ہے۔

❁ الشَرُّ لِلشَرِّ خُلِقَ: برائی تو برائی کے لئے ہی پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح کا یہ مقولہ ہے۔ الحَدِيْدُ بالحَدِيْدِ يُفْلَح: لوہا لوہے سے کٹتا ہے۔

❁ إنَّ في الشَرِّ خِيارًا: برائی میں کچھ خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں (خیار خیر کی جمع ہے یعنی برائی میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اس مثل کا معنی عربوں کے اس قول کے مفہوم کے مشابہ ہے۔ بَعْضُ الشَرِّ أَهْوَنُ مِنْ بعض: کچھ شر دوسرے شر سے چھوٹے ہوتے ہیں (خیار اختیار کا اسم بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں معنی ہوں گے کہ برائی میں ایسی برائی بھی ہوتی ہے جسے چن کر دوسری برائی پر ترجیح دی جائے)

❁ بَعْضُ الشرِ أَهْوَنُ مِنْ بعض: بعض شر دوسرے شر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی برائی چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی)

❁ لِكُلِّ شَرٍّ بَاعِثٌ: ہر برائی کا کوئی محرک ہوتا ہے۔

❁ لاتَشْرَبِ السَّمَّ اِتِّكالاً على التِرياق: تریاق پر بھروسہ کر کے زہر نہ پی۔

❁ أَشْرَبُ مِنَ الهِيْمِ: پیاسے اونٹوں سے بھی زیادہ پینے والا (حیم: پیاسے اونٹ اھیم وھیماء کی جمع ہے جو ھیام سے مشتق ہے بمعنی سخت پیاس)

❁ أَشْرَبُ مِنَ الرَمْلِ: ریت سے زیادہ پینے والا۔

❁ أَشْرَبُ مِنَ القِمْعِ: قیف سے زیادہ پینے والا۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

۞ اَلشَّرْطُ أَمْلَكُ عَلَيْكَ أَمْ لَكَ: مخالف یا موافق شرط زیادہ لازمی ہے۔ (بھائیوں کے درمیان شرط کی حفاظت کے بارے میں کہا جاتا ہے۔)

۞ شَرُّعُكَ مابَلَّغَكَ المَحَلَّ: تیرے لئے اتنا زادِراہ کافی ہے جو تجھے منزل مقصود تک پہنچادے۔ (آسان چیز پر اکتفا کے بارے میں کہا جاتا ہے)

۞ إِنَّ الشِّرَاكَ قُدَّ من أَدِيمِهِ: تسمہ اپنی کھال سے ہی کاٹا گیا ہے۔ دو باہم مشابہ اور قریبی چیزوں کے لئے کہا جاتا ہے۔ شراک جوتے کے تسمہ کو کہا جاتا ہے جو قدم کے پچھلے حصہ پر ہوتا ہے۔

۞ مَنْ إِشْتَرَى الحَمْدَ لَمْ يُغْبَنْ: جس نے تعریف خریدی وہ خسارہ میں نہ رہا۔

۞ مَنْ يَشْتَرِي سَيْفِي وهَذا أَثَرُهُ: میری تلوار کون خریدے گا اور یہ اس کا اثر ہے؟ (یہ حرث بن ظالم مری کا مقولہ ہے۔ نعمان نے اس کی گرفتاری کے لئے کچھ سوار بھیجے جنہوں نے اسے جالیا حرث کو ان پر افسوس ہوا بہرحال اس نے کچھ سوار قتل کردیئے سواروں نے اسے نرغہ میں لے لیا۔ حرث ان میں سے جس گروہ کا رخ کرتا انہیں منتشر کردیتا اور جس سوار سے سامنا ہوتا اسے قتل کر ڈالتا اور ساتھ ہی یہ مقولہ کہتا جاتا۔ آخر یہ لوگ اس سے ہٹ کر نعمان کے پاس چلے گئے۔ اس چیز سے بچنے کے لئے کہا جاتا ہے جس جیسی چیز سے ایک بار پہلے تکلیف اٹھانی پڑی ہو)

۞ أَلَا مَنْ يَشْتَرِي سَهَرًا بِنَوْمٍ: کیا کوئی ایسا شخص ہے جو نیند کے بدلے بیداری خرید لے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو نصیحت کی ناشکری کرے اور عافیت کو ناپسند کرے)

۞ إِشْتَرِ لِنَفْسِكَ وَلِلسُّوقِ: اپنے لئے اور بازار کے لئے خرید (یعنی ایسی چیز خرید جسے روک کر اس سے فائدہ اٹھائے اور اگر اسے رکھنا نہ چاہے اور اسے بیچ دے تو دام کھرے کرلے)

۞ اَلشَّعِيرُ يُؤْكَلُ ويُذَمُّ: جو کھایا بھی کھایا جاتا ہے اور اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے۔ (محسن کی مذمت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

۞ شُعَاعُ الشَّمسِ لا يُخْفَى ونُورُ الحَقِّ لا يُطْفَى: آفتاب کی کرنیں چھپائی نہیں جاسکتیں اور حق کے چراغ کو بجھایا نہیں جاسکتا۔

۞ إِنْ يَكُنِ الشُّغْلُ مَجْهَدَةً فَإِنَّ الفَرَاغَ مَفْسَدَةٌ: شغل اگر مشقت میں ڈالتا ہے تو بیکاری باعث فساد ہے)

۞ إِنَّ الشَّفِيقَ بِسُوءِ ظَنٍّ مُوْلَعٌ: یقیناً مہربان برے گمانوں کا گرویدہ ہوتا ہے۔ (یعنی محبت کی زیادتی بدگمانی کا باعث ہوتی ہے۔

۞ شَفَيْتُ نَفْسِي وجدعتُ أَنْفِي: میں نے اپنے نفس کو شفا دی مگر اپنی ناک کاٹ لی۔ یہ بات وہ شخص کہتا ہے جس نے ایک پہلو سے تو مراد پالی ہو لیکن دوسرے پہلو سے اسے ناپسندیدہ چیز سے پالا پڑے)

۞ شَقَّ فُلانٌ عَصَا قَوْمِهِ: فلاں شخص نے اپنی قوم میں اختلاف کا بیج بودیا۔ (یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص قوم میں تفرقہ پیدا کردے (اصل یہ ہے کہ عصا قوم کے اتحاد وہم آہنگی کے مترادف ہے جماعت میں نااتفاقی ہو تو عصا نہیں کہلاتی)

۞ مَا يُشَقُّ غُبَارُهُ: اس کا غبار چیرا نہیں جاسکتا۔ (فاتح سبقت لے جانے والے کے لئے کہا جاتا ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے جس کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی ہمسر نہ ہو۔ غبار چیرنے سے مراد بہت تیز دوڑنا کہ کوئی اس کی گرد کو بھی نہ پاسکے)

۞ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثم قَرَّتْ: اونٹ کے منہ کا جھاگ ہے کہ پہلے آواز نکالی پھر ساکن ہوگیا۔ شقشقہ جھاگ جو اونٹ جوش میں بلبلاتے ہوئے نکالتا ہے)

۞ إنّ الشَّقِيَّ تَرَى لَهُ أَعْلامًا: تو بدبخت کی تمام علامتیں دیکھ لے گا۔ (یعنی بدبخت کی بدبختی کی علامتیں اس پر ظاہر ہوتی ہیں)

۞ إِنَّ الشَّقِيَّ وَافِدُ البَرَاجِمِ: بیشک بدبخت براجم کا آنے والا ہے۔ (براجم حنظلہ بن مالک بن عمرو بن تمیم کے پانچ بیٹے تھے۔ یہ مثل کہنے والا عمرو بن ہند ہے جو عراق کا بادشاہ تھا۔ سوید بن ربیعہ تمیمی اس کے بھائی کو قتل کرکے بھاگ گیا تھا۔ بادشاہ نے عہد کیا کہ وہ بنی تمیم کے ایک سو مردوں کو قتل کرے گا اور ان کو ڈھونڈ نکالنے کا اہتمام کیا اور ان کے 99 آدمی قتل کردیئے اور آخری ایک کی تلاش میں تھا کہ براجم میں سے ایک شخص سفر پر تھا اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ بادشاہ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے دھواں نظر آیا اس نے خیال کیا کہ وہاں کھانا مل جائے گا چنانچہ وہ قریب آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں براجم میں سے ہوں۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور کہا: بے شک بدبخت براجم کا آنے والا شخص ہے۔

۞ لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ: جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔

۞ أَشْكَرُ مِنْ كَلْبٍ: کتے سے زیادہ شکر گزار۔ (کتے کے بارے میں ایک عرب ادیب کا قول ہے: کتا اپنی ایذا کو مجھ سے روکتا ہے اور دوسرے کی ایذا سے مجھے بچاتا ہے میرے تھوڑے سے کھانے کا شکر کرتا ہے، اور میری شب باشی اور قیلولہ کرنے کی جگہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ جانوروں میں سے میرا خاص دوست ہے)۔

۞ أَشْكَرُ مِنْ بَرْوَقَةٍ: وہ بروقہ سے بھی زیادہ شکر گزار ہے۔ (بروقہ ایک چھوٹا سا پودا جو تھوڑی سی بارش سے سرسبز ہوجاتا ہے اور کبھی بغیر بارش ہرا بھرا ہوجاتا ہے بلکہ گھٹا اٹھنے پر اگ آتا ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو احسان پر شکر اور تعریف کرنے میں جلدی کرتا ہے یا اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو تھوڑے سے انعام ملنے پر ممنونیت کا اظہار کرے)۔

۞ تَشْكُو إِلَى غيرِ مُصْمِتٍ: تو اس شخص سے شکایت کرتا ہے جو تیری آواز نہیں سنتا (یعنی تیرے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

❁ اَلشَّمَاتَةُ لُؤْمٌ: دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونا کمینہ پن ہے (یعنی کسی کی مصیبت پر وہی خوش ہوتا ہے جو کمینہ اصل ہو)

❁ لِكُلِّ شَمْسٍ مَغْرِبٌ: ہر سورج کو ڈوبنا ہے۔

❁ مَالِي بِشَمْسٍ لاتُدْفِئُنِي: جو سورج مجھے گرم نہیں کرتا وہ میرا نہیں۔

❁ هُوَ عِنْدِيْ بِالشِّمَالِ: وہ میرے نزدیک بائیں طرف ہے۔ (یعنی کم رتبہ ہے)

❁ رُبَّ شَانِئَةٍ أَحْفَى مِن أُمٍّ: بہت سی دشمن عورتیں ماں سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ (یعنی وہ تمہارے عیبوں کی تلاش میں رہتی ہیں اور تم پر انہیں ظاہر کرتی ہیں جن کی وجہ سے تم شائستہ اخلاق ہو جاتے ہو۔ ان کی فکر مندی ماں کی فکر مندی سے زیادہ ہوتی ہے جو تمہارے عیوب کو چھپاتی ہے اور تم ان عیوب کو دور نہیں کرتے)

❁ شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَمَ: یہ عادت مجھے اخزم سے معلوم ہوئی تھی (یہ ابو اخزم طائی کا قول ہے۔ اس کے ایک بیٹے کا نام اخزم تھا۔ اخزم نافرمان تھا۔ مرنے پر بیٹے چھوڑے۔ جو ایک روز اپنے دادا ابو اخزم پر جھپٹے اور اسے زخمی کر دیا اس موقع پر ابو اخزم نے کہا:
إِنَّ بَنِيَّ ضَرَّجُونِي بالدم شِنْشِنَةٌ اعرفها من اخزم (میرے بچوں نے مجھے خون آلود کر دیا یہ عادت مجھے اخزم سے معلوم ہوئی تھی۔ یعنی میرے یہ پوتے اپنے باپ کی طرح نافرمان ہیں۔ شِنْشِنَة: بمعنی عادت، طبیعت)

❁ شَاهِدُ الثَّعْلَبِ ذَنَبُهُ: لومڑی کا گواہ تو اس کی دم ہے۔

❁ شَاهِدُ الْبُغْضِ النظر: بغض کا گواہ اس کی نگاہ ہے۔

❁ شَهَادَاتُ الْفِعَالِ خَيْرٌ من شهاداتِ الرجال: کاموں کی گواہیاں جنہیں کوئی شخص کریں مردوں کی گواہیوں سے بہتر ہیں۔

❁ أَشْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ: سورج سے زیادہ مشہور۔

❁ اشهرُ مِنَ القَمَرِ: چاند سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِنَ البَدْرِ: ماہ تمام سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِنَ الصُّبحِ: صبح سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِن فَلَقِ الصُّبحِ: ظہور صبح سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِن عَلَمٍ: پہاڑ یا جھنڈے سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِن نارعلى عَلَمٍ: پہاڑ پر آگ سے زیادہ مشہور۔ (علم بمعنی بلند پہاڑ)

❁ أَشْهَرُ مِنَ الأَبْلَقِ: ابلق سے زیادہ مشہور۔ (ابلق: یہ دوڑ کا گھوڑا سیاہ وسفید رنگ کا اور رانوں تک سفید تھا)

❁ أَتَشْتَهِي وتَشْتَكِي: کیا تو چاہتا بھی ہے اور شکایت بھی کرتا ہے۔ (یعنی پہلے طلب کرتا ہے اور مطلوبہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی شکایت کرتا ہے)

❁ مِنْ شَهْوَةِ التَمْرِ يُمَصُّ النوَى: کھجور کی خواہش سے گٹھلی چوسی جاتی ہے۔

❁ شُبْ شَوْبًا لكَ بَعْضُهُ: ملانے والی چیز کو ملا جس میں تیرا حصہ ہو (شاب يشوب الشيئ: چیز کو ملانا، خلط ملط کرنا، مراد ایسا کام کر جس میں تیرا حصہ ہو۔ اس شخص کی اعانت پر اکسانے کے بارے میں بولا جاتا ہے جس سے تجھے فائدہ پہنچے۔ یہ عربوں کے اس قول کے مانند ہے۔ أُحْلُبْ حَلَبًا لك شَطْرُهُ۔ اچھی طرح دودھ تیرا بھی حصہ اس میں ہے)

❁ إِذَا شَاوَرْتَ العَاقِلَ صَارَ عَقْلُهُ لَكَ: جب تو عقلمند سے مشورہ کرے گا تو اس کی عقل تیری عقل ہو جائے گی۔

❁ شَوْفُ النُّحَاسِ يُظْهِرُ النُّحاسَا: تانبے کو صقیل کرنے سے تانبا ظاہر ہو جاتا ہے۔ (شوف: صیقل کرنا۔ جلا دینا۔ مراد یہ ہے کہ تانبے کو صیقل کرنے اور جلا دینے سے اس کا تانبا ہونا ختم نہیں ہو جائے گا۔ بد اصل کے لئے کہا جاتا ہے جسے سخاوت پر اکسایا جائے تو وہ اسے پسند نہیں کرتا اور اپنی کمینگی ظاہر کر دیتا ہے)

❁ مِنَ الشَّوْكَةِ تخرجُ الوردةُ: کانٹے سے گلاب کا پھول نکلتا ہے۔

❁ الشَاةُ المَذْبُوحَةُ لايُؤْلِمُهَا السَلْخَ: ذبح کی گئی بکری کو کھال اتارنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔

❁ كُلُّ شَاةٍ تُنَاطُ بِرِجْلَيْهَا: ہر بکری کو اس کی ٹانگوں کے بل لٹکایا جاتا ہے (مراد کسی کو دوسرے کے جرم میں سزا نہیں دی جاتی۔ تُنَاطُ کا معنی وہ لٹکائی جاتی ہے)

❁ بَاتَ يَشْوِيُ القَرَاحَ: وہ خالص پانی کو بھونتا رہا (قراح سے مراد ماء قراح (خالص بے ملاوٹ پانی ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی حالت خراب ہو، مال ختم ہو گیا ہو تو وہ پکانے کی خواہش میں پانی کو بھوننے لگے)

❁ كُلُّ شَيْءٍ وثَمَنُهُ: ہر چیز کے ساتھ اس کی قیمت ہے (یعنی ہر چیز کی ایک قیمت ہے)

❁ لايَكُونُ ذٰلِكَ حَتّٰى يَشِيْبَ الغرابُ: یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کوا سفید نہ ہو جائے۔ اسی مفہوم کا حامل یہ مقولہ بھی ہے حَتّٰى يَبِيْضَ الفأرُ (جب تک چوہا انڈا نہ دے، یا حَتّٰى يَلِجَ الجملُ فى سَمِّ الإبرة جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا)

❁ شَيْبُكَ نَاعِيْكَ: تیرے بالوں کی سفیدی تیری موت کی اطلاع دینے والی ہے (ناعی موت کی اطلاع دینے والا۔ یعنی تیرے بالوں کی سفیدی تیری موت کے قریب آ جانے سے باخبر کرتی ہے)

ص

❁ صُبَابَتِيْ تَرْوِي ولَيْسَتْ غَيْلاً: میرا تلچھٹ سیراب کرتا ہے مگر وہ زمین پر بہنے والا پانی نہیں۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے کہ جسے اپنی کوششوں سے فائدہ ہو رہا ہو۔ خواہ تھوڑا ہی)

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى: قوم صبح کے وقت رات میں چلنے کی تعریف کرتی ہے (سریٰ: رات کو چلنا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو آرام کی امید میں مشقت برداشت کرے نیز اس چیز کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو مشقت سے حاصل ہو اور تھکاوٹ سے پہنچے۔

❁ مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ: جس نے صبر کیا کامیاب ہوا۔

❁ الصَّبْرُ حِيلَةُ مَنْ لَاحِيلَةَ لَهُ: صبر اس کا حیلہ ہے جس کا کوئی حیلہ نہ ہو۔

❁ الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ: صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

❁ أَصْبَرُ مِنَ الْوَتَدِ عَلَى الذُّلِّ: ذلت پر میخ سے زیادہ صابر۔

❁ أَصْبَرُ مِنَ الْأَرْضِ: زمین سے زیادہ صابر۔

❁ الصَّبِيُّ أَعْلَمُ بِمَضْغِ فِيهِ: بچہ اپنے منہ کے چبانے کو خوب جانتا ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے ایسے کام کا مشورہ دیا جائے جسے وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ صحیح نہیں)

❁ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ: کبھی جسم بیماریوں سے تندرست بھی ہو جاتے ہیں۔

❁ صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى: ضرورت مند اندھا ہوتا ہے۔

❁ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالَّذِي فِيهِ: گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہے۔

❁ صَحِيفَةُ الْمُتَلَمِّسِ: متلمس کا خط (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خود فریبی میں مبتلا ہو کر ہلاکت میں پڑے۔ مشہور شاعر متلمس اور اس کا بھانجہ طرفہ حیرہ کے بادشاہ عمرو بن ہند کے پاس وفد بن کر آئے اور اس کے مقرب کے ہاں مہمان اترے۔ دونوں مقرب کے ہمراہ شکار کے لئے جاتے تمام دن دوڑتے اور تھک جاتے۔ بادشاہ پیتا تو وہ دونوں اس کے دروازے پر دن بھر کھڑے رہتے اور اس تک نہ پہنچ پاتے۔ طرفہ نے تنگ آ کر مشہور شعروں میں بادشاہ کی ہجو کی۔ جب عمرو بن ھند تک یہ بات پہنچی تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا اسے یہ خوف تھا کہ کہیں متلمس بھی اس کی ہجو نہ کر ڈالے چنانچہ ان دونوں سے کہا۔ تم اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہوگے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو بادشاہ نے دو خط لکھ کر اور سربمہر کر کے انہیں دیئے اور کہا کہ میرے بحریہ کے گورنر کے پاس جاؤ میں نے اسے حکم دے دیا ہے کہ تمہیں انعام دے۔ راستہ میں دونوں کا ایک بوڑھے کے پاس سے گزر ہوا، جو پاخانہ کرتا کھجور کھاتا اور جوئیں مارتا تھا۔ متلمس نے کہا: میں نے اس سے زیادہ بے وقوف کوئی بوڑھا نہیں دیکھا۔ یہ سن کر بوڑھے نے کہا۔ تم نے میری کیا بے وقوفی دیکھی؟ میں تو خراب چیز نکالتا، پاکیزہ چیز داخل کرتا اور دشمن کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بیوقوف تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ میں اپنی موت اٹھائے ہوئے ہے اور جانتا نہیں۔ متلمس اس کی بات سے شک میں پڑ گیا۔ اسی اثناء میں حیرہ کا ایک غلام وہاں آ گیا۔ متلمس نے اسے سے پوچھا: پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں پھر غلام نے خط کی مہر توڑ کر پڑھا تو اس میں لکھا پایا: متلمس آئے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے زندہ دفن کر دیا جائے)۔

❁ تَصْدَأُ الْقُلُوبُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ: دل اس طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔

❁ صَدْرُكَ أَوْسَعُ لِسِرِّكَ: تیرا سینہ ہی تیرے راز کے لئے وسیع تر ہے۔ (راز پوشیدہ رکھنے پر اکسانے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنا راز کسی پر فاش نہ کرے۔ کیونکہ تو راز افشانہ کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔ اگر تیرا سینہ راز سے تنگ ہو جائے تو دوسرا تو تجھ سے بھی زیادہ تنگ ہوگا یعنی جلد راز اگل دے گا۔

❁ صُدُورُ الْأَحْرَارِ قُبُورُ الْأَسْرَارِ: شریفوں کے سینے رازوں کی قبریں ہوتے ہیں۔

❁ صَادَفَ دَرْءُ السَّيْلِ دَرْءًا يَصْدَعُهُ: سیلاب کی رکاوٹ ایسی رکاوٹ سے ٹکرائی جو سیلاب کی رکاوٹ کو توڑ ڈالے (درء: دور کرنا دفاع کرنا۔ مراد یہ ہے کہ برائی ایسی برائی سے ٹکرائی جو اس پر غالب ہو جائے۔ یہ ایسا یہ مقولہ ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ الحدید بالحدید یفلح: اس کا مفہوم پہلے بیان کیا جا چکا ہے)

❁ مَنْ صَدَقَ اللّٰهَ نَجَا: جو اللہ کے ساتھ سچا رہا اس نے نجات پائی۔ (یعنی جو اللہ سے سچائی سے ملا۔ بایں معنی کہ اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے، اس نے نجات پائی)

❁ الصِّدْقُ يُنْبِئُ عَنْكَ لَا الْوَعِيدُ: سچائی نہ کہ دھمکی تیری خبر دے گی۔ (یعنی دشمن کا سچا مقابلہ اسے تیری خبر دے گا نہ کہ اسے تیرا دھمکی دینا۔ بزدل کے لئے کہا جاتا ہے جو دھمکی دے کر اس پر عمل نہ کرے)

❁ أَصْدَقُ مِنْ لَفْظٍ لَحْظٌ: بات سے زیادہ سچی نگاہ ہے۔

❁ أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا: قطا سے زیادہ سچا۔ (قطا: بھٹ تیتر۔ شکار میں اس کی مثل بیان کی جاتی ہے کیونکہ وہ قطا قطا پکار کر اپنی سچی خبر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرب اس کی مثال دیتے ہیں کیونکہ اس کی ایک ہی آواز ہے جسے وہ تبدیل نہیں کرتا)۔

❁ صَرَّحَ الْمَحْضُ عَنِ الزُّبْدِ: خالص چیز جھاگ سے الگ ہوگئی۔ (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جس کی پوشیدگی ظاہر اور واضح ہو جائے۔ صرّح الامر: واضح ہونا، ظاہر ہونا۔

❁ عِنْدَ التَّصْرِيحِ تُرِيحُ: بات کھلنے پر تو راحت پائے گا۔

❁ الصَّرِيحُ تَحْتَ الرَّغْوَةِ: صاف چیز جھاگ کے نیچے ہے۔ (معاملہ پوشیدہ ہے جلد ظاہر ہو جائے گا)

❁ مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ: جو حق سے کشتی لڑے گا حق اس کو پچھاڑ دے گا۔

❁ لِكُلِّ صَارِمٍ نَبْوَةٌ وَلِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ وَلِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ: ہر تلوار کبھی اچٹ جاتی ہے، ہر گھوڑا کبھی ٹھوکر کھاتا اور ہر عالم سے بھی لغزش ہو جاتی ہے۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

أَصْعَبُ مِنْ رَدِّ الشَّخْبِ فِي الضَّرْعِ: دودھ کی دھار کو تھن میں لوٹا دینے سے زیادہ مشکل۔

كَصُفَيْحَةِ الْمِسَنِّ تَشْحَذُ وَلَا تَقْطَعُ: سان کے پتھر کی طرح دھار کو تیز کرتا ہے مگر کاٹتا نہیں۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو لوگوں کو نصیحت کرے لیکن خود اپنا کام اچھی طرح نہ کرے۔

صَفْقَةٌ لَمْ يَشْهَدْهَا حَاطِبٌ: ایسا سودا جس میں حاطب موجود نہیں تھا۔ (حاطب بن ابی بلتعہ مراد ہے۔ جو بڑا محتاط اور عقلمند شخص تھا۔ اس کی قوم کا کوئی شخص خرید وفروخت کرتا سودا اس کے ہاتھوں طے ہوتا تا کہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ایک نے حاطب کے بغیر ہی سودا کر لیا جس میں اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ تو مذکورہ بالا مقولہ کہا گیا۔ اس پر یہ ضرب المثل بن گیا۔ اور ہر ایسے معاملہ کے لئے بیان کیا جانے لگا جو اس کے ماہر کے بغیر انجام پائے)

أَصْفَى مِنَ الدَّمْعَةِ: آنسو سے زیادہ صاف۔

أَصْفَى مِنْ عَيْنِ الدِّيْكِ: مرغ کی آنکھ سے زیادہ صاف۔

أَصْفَى مِنْ جَنَى النَّحْلِ: خالص شہد سے زیادہ صاف۔ (جنی النحل بمعنی مکھی کا شہد)

أَصْلَحَ غَيْثٌ مَا أَفْسَدَ الْبَرَدُ: بارش نے اس چیز کو درست کر دیا جسے سردی نے خراب کر دیا تھا۔

وَهَلْ يُصْلِحُ الْعَطَّارُ مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُ: جسے زمانہ نے خراب کر دیا ہو اسے بھلا عطار کیا درست کرے گا۔

لَا يَصْلُحُ رَفِيْقًا مَنْ لَمْ يَبْتَلِعْ رِيْقًا: اس شخص میں رفیق ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی جو غصے کے تھوک کو بھی نہ نگل سکے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو غصہ کو پی جائے)

مَا لَا يَصْلُحُ تَرْكُهُ أَصْلَحُ: جو درست نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔

أَصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلُحْ لَكَ النَّاسُ: اپنے آپ کو درست کر، لوگ تیرے لئے ٹھیک ہو جائیں گے۔

رُبَّ صَلَفٍ تَحْتَ الرَّاعِدَةِ: بسا اوقات کنجوسی اور ڈینگ کڑکنے والے بادل کے نیچے ہوتی ہے۔ (اس کنجوس کے لئے کہا جاتا ہے جو مالدار ہو، یا جو کہتا تو بہت کچھ ہو مگر کرتا کچھ نہ ہو یا جو اپنی دھمکی پر عمل نہ کرتا ہو یا جو اپنی بہت تعریف کرتا ہو لیکن بھلائی سے خالی ہو)

أَصَمُّ عَمَّا سَاءَهُ سَمِيْعٌ: ان باتوں سے بہرا جو بدی اور غم میں ڈالنے والی ہیں اور ان باتوں کو سننے والا جو اس کو خوش کرتی ہیں۔ اس معنی میں کیا خوب کہا گیا ہے:

قُلْ مَا بَدَا لَكَ مِنْ زُوْرٍ وَمِنْ كَذِبٍ
حِلْمِي أَصَمُّ وَأُذْنِي غَيْرُ صَمَّاءِ

جو خیال میں آئے جھوٹ اور غلط کہہ دے
میرا تحمل بہرا ہے، مگر کان بہرے نہیں

صَمْصَامَةُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ: عمرو بن معدی کرب کی تلوار۔ یہ عربوں کی ایک مشہور تلوار تھی۔ اور اپنے جوہر خوبصورتی اور کاٹ میں بے مثل تھی۔

اِصْنَعْهُ صَنْعَةَ مَنْ طَبَّ لِمَنْ حَبَّ: اس کو ایسے بنا جیسے تجربہ کار آدمی اپنے محبوب کے لئے بناتا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ہر چیز میں نفاست کا خواہاں ہو۔ مراد اس کو ایسا بنا جیسے ایک تجربہ کار شخص اپنے محبوب کے لئے بنایا کرتا ہے۔ طب الرجل کا معنی ہے آدمی کا تجربہ کار ہونا)

أَصْنَعُ مِنَ النَّحْلِ: شہد کی مکھی سے زیادہ کاریگر۔

أَصْنَعُ مِنْ دُوْدِ الْقَزِّ: ریشم کے کیڑے سے زیادہ کاریگر۔

أَصَابَ تَمْرَةَ الْغُرَابِ: اسے کوے کی کھجور مل گئی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو نفیس چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ کوا نفیس ترین کھجور کا انتخاب کرتا ہے)

مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ: ایک قوم کے مصائب دوسری قوم کے فائدے ہوتے ہیں۔

لَيْسَ بِصِيَاحِ الْغُرَابِ يَجِيْءُ الْمَطَرُ: کوے کے کائیں کائیں کرنے سے بارش نہیں آ جاتی۔

هٰذَا يَصِيْدُ وَهٰذَا يَأْكُلُ السَّمَكَةَ: یہ مچھلیاں پکڑتا ہے یہ مچھلیاں کھاتا ہے۔ (ایک کی کمائی دوسرا کھاتا ہے)

صَيْدَكَ لَا تُحْرَمْهُ: شکار کر کے اس سے محروم نہ ہو (یعنی اپنے شکار سے غفلت نہ کر (یہ بھی کہا جاتا ہے صَيْدُكَ إِنْ لَمْ تُحْرَمْهُ شکار تیرا ہے اگر تو اس سے محروم نہ ہوا اور صَيْدُكَ فَلَا تُحْرَمْهُ شکار تیرا ہے لہٰذا اس سے محروم نہ رہ۔ یہ اس شخص سے کہا جاتا ہے جسے اکسایا جاتا ہے کہ اگر ہو سکے تو موقع سے فائدہ اٹھائے)

كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا: ہر شکار گورخر کے پیٹ میں ہے (الفرا بمعنی گورخر۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ تین افراد شکار کے لئے نکلے، ایک نے خرگوش، دوسرے نے ہرن اور تیسرے نے گورخر شکار کیا۔ پہلے دو شکاری خوش ہوئے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے۔ اس پر تیسرے شکاری نے کہا۔ ہر شکار گورخر کے پیٹ میں ہے یعنی یہ سب سے بڑا شکار ہے جو اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا تو یہ اسے ہر شکار سے دور کر دے گا)

فِي الصَّيْفِ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ: تو نے دودھ تو گرمیوں ہی ضائع کر دیا۔ (تاء تینوں حالتوں میں مکسور ہوگا خواہ مذکر، مونث یا جمع کو مخاطب بنایا جائے۔ کیونکہ مثل کی اصل اسی طرح بیان ہوئی ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی ایسی چیز کا طالب ہو جس کا وقت گزر چکا ہو۔ اس کی اصل یہ ہے کہ لقیط کی بیٹی دختنوس عمرو ابن عدس کی بیوی تھی جو بوڑھا تھا۔ دختنوس کو عمرو سے نفرت تھی عمرو نے اس کو طلاق دیدی اور اس سے [illegible] دی کر لی۔ اس سال قحط پڑا تو اسے اپنے پہلے

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شوہر کے پاس دودھ لینے کے لئے ایک آدمی بھیجا۔تو عمرو نے جواب میں یہ بات کہی)

ض

❁ الضَّجُوْرُ تَحْلُبُ الْعُلْبَةَ: تنگ آئی ہوئی اونٹنی بھی دودھ کا برتن بھر دیتی ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز طلب کی جائے تو وہ نہ دے۔ضجور اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو خوشی سے دودھ نہ دے۔مراد یہ ہے کہ تنگ دلی اور عدم آمادگی کے باوجود اونٹنی دودھ سے برتن بھر دیتی ہے۔تحلب العلبۃ برتن بھر دودھ دیتی ہے)

❁ اِضْطَرَّہُ السَّیْلُ اِلَی الْعَطَشِ: سیلاب نے اسے پیاس کی احتیاج سے دوچار کر دیا۔(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے آسودگی تنگی پر مجبور کردے۔بددعا پر کہتے ہیں: رَمَاہُ اللّٰہُ بِالْحِرَّۃِ تَحْتَ الْقِرَّۃِ اللہ تعالیٰ اسے سردی کے نیچے پیاس میں مبتلا کرے۔حِرّۃ: پیاس۔قِرّۃ: ٹھنڈ)

❁ لَایَضُرُّ السَّحَابَ نَبْحُ الْکِلَابِ: کتوں کا بھونکنا بادلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔

❁ اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِیْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ: ضرورتیں ممنوع اشیاء کو بھی جائز ٹھہراتی ہیں۔

❁ ضَرَبَ اَخْمَاسًا لِاَسْدَاسٍ: اس نے پانچویں دن کی باری والے اونٹوں کو چھٹے دن کی باری والے بنا دیا۔(اخماس خمس کی جمع اور اسداس سدس کی جمع ہے، یعنی ایسے اونٹ جنہیں لمبے سفر کے لئے ہر پانچ دنوں میں ایک بار پھر ہر چھ دنوں میں ایک بار پانی پینے کا عادی بنایا گیا ہوتا کہ وہ اتنے پانی کو برداشت کر لیا کریں۔مراد اونٹوں کے پانچ دن کے وقفہ سے چھ دن کے وقفہ تک بڑھا دیا۔اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ساز باز کرے)

❁ اِذَا ضَرَبْتَ فَاَوْجِعْ وَاِذَا زَجَرْتَ فَاَسْمِعْ: وار کرے تو بھرپور اور جھڑکے تو اچھی طرح سنا دے (کام میں سختی اور کوتاہی اور عاجزی ترک کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ اِنَّکَ یَضْرِبُ فِیْ حَدِیْدٍ بَارِدٍ: تو تو ٹھنڈا لوہا کوٹتا ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسے شخص سے فائدہ اٹھانا چاہے جس کے پاس فائدہ والی کوئی چیز نہ ہو)

❁ اِیَّاکَ اَنْ یَضْرِبَ لِسَانُکَ عُنُقَکَ: ایسی بات سے بچ جو تیری گردن مار دے۔(ایسی بات منہ سے نہ نکال جس میں تیری ہلاکت ہو)

❁ ضَرْبُ الْحَبِیْبِ اَوْجَعُ: دوست کی مار زیادہ دکھ دیتی ہے۔

❁ ضِغْثٌ عَلٰی اِبَّالَۃٍ: گٹھری پر گٹھری (بد سے بدتر۔مصیبت پر مصیبت۔ابالہ: گھاس یا لکڑی کا گٹھا۔ضغث: مٹھی بھر تازہ اور خشک گھاس۔یہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی پر مصیبت ڈالے اور پھر اسے اور بڑھا دے)

❁ قَدْ ضَلَّ مَنْ کَانَتِ الْعُمْیَانُ تَھْدِیْہِ: جس کی رہنمائی اندھے کرتے ہوں وہ راہ سے بھٹک گیا۔

❁ اَضَلُّ مِنْ ضَبٍّ: گوہ سے زیادہ گمراہ (کہا جاتا ہے کہ جب گوہ اپنے بل سے نکلے تو اسے بل میں واپس کی راہ نہیں ملتی)

❁ اِنَّمَا یُضَنُّ بِالضَّنِیْنِ: بخیل کے ساتھ ہی بخل کیا جاتا ہے۔(اس کا معنی یہ ہے کہ جو تم سے بھائی چارہ رکھے اس سے بھائی چارہ رکھنا چاہئے۔اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان عمدہ چیز میں بخل سے کام لیتا ہے۔ضنین: وہ چیز جس کی نفاست کی وجہ سے اس کو دینے میں بخل کیا جائے)

❁ اَضِیْئُ لِیْ اَقْدَحْ لَکَ: تو میرے لئے روشنی کر میں تیرے لئے چقماق سے آگ نکالوں گا۔(اعمال کے ساتھ بدلہ میں مساوات کے لئے کہا جاتا ہے۔معنی ہے: تو میرے لئے ہو میں تیرے لئے ہو جاؤں گا۔یا تو میرے لئے اس سے بھی زیادہ ہو جا جتنا میں تیرے لئے ہوں گا کیونکہ روشنی کرنا چقماق سے آگ نکالنے سے برتر ہے)

❁ لَایَضِیْعُ حَقٌّ وَرَاءَہُ طَالِبٌ: وہ حق ضائع نہیں ہوتا جس کے پیچھے طلب گار ہو۔

❁ لَمْ یَضِعْ مِنْ مَالِکَ مَاوَعَظَکَ: تیرا وہ مال ضائع نہیں ہوتا جس نے تیری خیرخواہی کی۔

❁ اَضْیَعُ مِنْ سِرَاجٍ فِیْ شَمْسٍ: دھوپ میں چراغ سے زیادہ لاحاصل۔

❁ اَضْیَعُ مِنْ غِمْدٍ بِلَانَصْلٍ: بغیر تلوار کی میان سے زیادہ بے کار۔

❁ اَضْیَعُ مِنْ قَمَرِ الشِّتَاءِ: جاڑوں کی چاندنی سے زیادہ بیکار (کیونکہ سردیوں کی چاندنی میں اس طرح نہیں بیٹھا جاتا جیسے گرمیوں کی چاندنی میں بیٹھا جاتا ہے)

❁ اِذَا ضَافَکَ مَکْرُوْہٌ فَاقْرِہٖ صَبْرًا: جب مصیبت تیری مہمان ہو تو صبر سے اس کی ضیافت کر۔

❁ اَضْیَقُ مِنْ ظِلِّ الرُّمْحِ: نیزے کے سائے سے زیادہ تنگ۔

ط

❁ تَطَاْطَاْ لَھَا تُخْطِئْکَ: مصیبت کے سامنے سر جھکا، اس کا نشانہ خطا جائے گا اور تجھ سے گزر جائے گا (ہاء: حادثہ (مراد مصیبت) کے لئے ہے۔یہ عربوں کے اس مقولہ کی طرح ہے: دَعِ الشَّرَّ یَعْبُرْ، شر کو چھوڑ گزر جائے گا۔شر (برائی) سے بچنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ طَبِیْبٌ یُدَاوِی النَّاسَ وَھُوَ مَرِیْضٌ: یہ ڈاکٹر لوگوں کا علاج کرتا

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے جبکہ خود بیمار ہے۔

❁ یاطَبِیْبُ طِبَّ نَفْسَكَ: ڈاکٹر صاحب اپنا علاج کرائیں۔

❁ الطَّبْعُ أَغْلَبُ: طبیعت زیادہ غالب ہے۔

❁ طَرْفُ الفَتَی یُخْبِرُ عن جنانِهِ: جوان کی نگاہ اس کے دل کی خبر دیتی ہے۔ جنان بمعنی دل۔ ایک عرب کا کہنا ہے لَا شَاهِدَ عَلَی غَائِبٍ أَعْدَلُ مِنْ طَرْفٍ علی قَلْبٍ (کوئی گواہ کسی غائب پر اتنا عادل نہیں جتنی نگاہ دل پر ہے) جنانه کے بجائے ضمیر بھی مروی ہے۔

❁ رُبَّ طَرْفٍ أَفْصَحُ مِنْ لِسان: بہت سی نگاہیں زبان سے زیادہ فصیح ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ایک قول کی طرح ہے: البُغْضُ تُبْدِيهِ لك العَيْنَان (آنکھیں دشمنی تم پر افشا کر دیتی ہیں)

❁ الطَّرِيفُ خَفِيفٌ و التَّلِيدُ بَلِيدٌ: نئی چیز سبک اور لطیف ہوتی ہے اور پرانی چیز بے کیف (یعنی نئی چیز پرانی چیز کی نسبت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس کے قریب قریب لوگوں کا یہ مقولہ ہے۔ لِكُلِّ جَدِيْدٍ لَذَّةٌ (ہر نئی چیز کی اپنی ایک لذت ہے)

❁ أَطْرِقْ كَرَا إِنَّ النَّعَامَةَ فِي القُرَى: کروان اپنی نگاہ نیچی کر لے، دیہات میں شتر مرغ موجود ہے۔ اَطْرِق: نظر جھکانا کرا کَرَوَان کا مخفف ہے جس کی جمع كِرْوَان۔ یہ تخفیف اس وقت کی جاتی ہے جب وہ منادی ہو۔ کروان ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اس کو حقیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور نعام کو بڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حقیر شخص کے لئے کہا جاتا ہے جب وہ کسی ایسے بڑے موضوع پر گفتگو کر رہا ہو جس پر اس جیسے لوگ گفتگو نہ کرتے ہوں۔ معنی ہی کہ اے حقیر شخص خاموش ہو جا تاکہ بڑے لوگ بات کر سکیں)

❁ لاتُطْعِمِ العَبْدَ الكُرَاعَ فيطمعَ بالذراع: غلام کو پائے نہ کھلا ورنہ وہ بازو کی طمع کرے گا (کراع جانور کے پاؤں ٹخنے سے نیچے کا حصہ۔ اور انسان کا گھٹنے سے نیچے کا حصہ۔ ذراع: بازو، بازو کا اگلا حصہ (کہنی سے کلائی تک، اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جسے تھوڑے کی اجازت دی جائے تو وہ زیادہ کا متمنی ہو جائے)

❁ أَطْغَی مِنَ السَّيْلِ: سیلاب سے زیادہ سرکش۔

❁ وَمَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غير كَدٍّ
سَيُدْرِكُهَا اذا شَابَ الغُرَابُ

بغیر محنت بلند درجہ طالب کوے کے سفید ہونے سے پہلے اسے نہیں پا سکتا۔

❁ مَنْ طَلَبَ أخا بلا عَيْب بقي بلاأخٍ: جو بے عیب بھائی چاہے وہ بغیر بھائی کے رہے گا۔

❁ مَنْ طَلَبَ عَظِيمًا خَاطَرَ بِعَظِيْمٍ: بڑی چیز کا طلب گار بڑی چیز کو خطرہ میں ڈالے گا۔

❁ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا نَالَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ: جو کوئی چیز طلب کرے گا وہ اس کا پورا یا تھوڑا حصہ حاصل کر لے گا۔

❁ تَطْلُبُ أَثْرًا بَعْدَ عَيْنٍ: تو اصل کے بعد نشان ڈھونڈ رہا ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو چھوڑ کر اس سے لاپرواہی کرے پھر جب وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے نشان کا پیچھا کرنے لگے اور اسے حاصل کرنے کے اقدامات کرے۔ یہاں عین بمعنی وہی چیز ہے) ہمارے ہاں اسی مفہوم کے لئے یہ محاورہ ہے: سانپ نکل گیا لکیر پیٹا کر)

❁ لا أَطْلُبُ أثرًا بعد عَيْنٍ: میں اصل کے بعد نشان نہیں ڈھونڈتا۔ (یعنی جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اسے نہیں چھوڑتا پھر جب وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے نشان کا پیچھا نہیں کرتا۔ ممکن چیز کی طلب میں غفلت اور اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر اس کی تلاش سے روکنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ كُلُّهُمْ طَالِبُ صَيْدٍ: وہ سب ہی ایک ہی شکار کے طالب ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ایک انار سو بیمار)

❁ رُبَّ طَلَبٍ جَرَّ إِلَى حَرْبٍ: بہت سی طلبیں جنگ کا باعث بنتی ہیں۔ (یعنی بعض اوقات انسان ایسی چیز کا طالب ہوتا ہے جس میں اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے)

❁ إذَا طَلَعَ سُهَيْلٌ رُفِعَ كَيْلٌ و وُضِعَ كَيْلٌ: جب سہیل طلوع ہوتا ہے ایک پیمانہ اٹھ جاتا اور دوسرا رکھا جاتا ہے۔ (سہیل ایک ستارہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے طلوع ہونے پر پھل پکتے ہیں اور موسم گرما کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ احکام کے بدلنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ إذَا طَلَعَ القَمَرُ طَابَ السَّهَرُ: جب چاند نکلتا ہے بیداری خوشگوار ہو جاتی ہے۔

❁ أَطْمَعُ مِنْ أَشْعَبَ: اشعب سے زیادہ لالچی (اشعب مدینہ کے ایک شخص کا نام ہے جو اپنی طمع کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے لالچ کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ ایک طشتری بنانے والے کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تو اس میں گھیر کا اضافہ کر دے۔ اس نے پوچھا مگر کیوں۔ تو اشعب نے جواب دیا: ہو سکتا ہے کہ اس میں رکھ کر کوئی چیز مجھے تحفہ بھیجا جائے۔

❁ أَطْمَعُ مِنْ طُفَيْلٍ: طفیل سے زیادہ لالچی (طفیل کوفہ والوں سے ایک شخص کا نام ہے جو مشہور لالچی تھا۔ طفیلیون کا لفظ اسی سے منسوب ہے۔ جس کا معنی مفت خورے ہے جو بن بلائے دعوتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ واحد طفیلی)

❁ مَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ بَاعَ دِيْنَهُ بِدُنْيَاهُ: جو اپنی خواہش کی اطاعت کرے وہ اپنا دین اپنی دنیا کے بدلہ میں بیچ دیتا ہے۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ مَنْ أَطَاعَ غَضَبَهُ أَضَاعَ أَدَبَهُ: جس نے اپنے غصے کی اطاعت کی اس نے اپنا ادب ضائع کر دیا۔

❁ بَیْنَ الْمُطِیعِ وبین الْمُدْبِرِ العاصی: فرمانبردار اور گناہ گار فرار پسند کے مابین (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اطاعت اور عدم اطاعت کے بین بین ہو اور اس کی اطاعت اور عدم اطاعت میں سے کسی کا اعتبار نہ کیا جائے۔

❁ مَنْ یَطُلْ ذَیْلُهُ یتنطّق به: جس کا دامن دراز ہوتا ہے وہ اس کا پٹکا باندھتا ہے۔ (یعنی جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے وہ اسے ایسی چیزوں پر خرچ کر دیتا جن کی اسے مطلق ضرورت نہیں ہوتی۔ اس شخص کی طرح جس کے کپڑے کا دامن لمبا ہو تو وہ فالتو حصہ کو اونچا کر کے باندھتا ہے۔ فضول خرچ دولت مند کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ أَطْوَلُ مِنْ ظِلِّ الرُّمْحِ: نیزہ کے سائے سے زیادہ لمبا۔

❁ أَطْوَلُ صُحبةً مِنَ الفَرْقَدَیْن: فرقدین سے بھی زیادہ طویل صحبت، فرقدین ہمیشہ ساتھ رہنے والے دو ستارے۔

❁ أَطْوَلُ مِنْ شَهْرِ الصَّوْمِ: ماہ صیام سے زیادہ لمبا۔

❁ ماعنده طَائِلٌ ولا نَائِلٌ: اس کے پاس نہ تو علم و فضل ہے اور نہ ہی عطیہ۔ (طائل طَول سے مشتق ہے جس کا معنی فضل ہے اور نائل نوال سے مشتق ہے اور اس کا معنی عطیہ ہے)

❁ طَوَیْتُهُ عَلَى بُلَالَتِهِ او بلالِهِ: میں نے اسے اس کی نمی پر لپیٹ دیا۔ (مراد میں نے اس کی ایذا کو برداشت کیا اور اس کی تکلیف کو معاف کر دیا۔ مویشیوں والے دودھ ختم ہونے پر ضرورت کے وقت تک دودھ کی مشکیں گیلی ہی لپیٹ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کی اذیت برداشت کرنے جس کے پاس تمہاری بچی کھچی محبت ہو یا اس کے اور تمہارے درمیان اچھے حالات کی بحالی کے انتظار کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ لِكُلِّ طَيٍّ نشرٌ: ہر تہہ کے لئے کھلنا ہے۔

❁ أَطْیَبُ مِنْ نَفَسِ الرَّبِیعِ: موسم بہار کی ہوا سے زیادہ خوشگوار۔

❁ أَطْیَبُ مِنَ الحیاة: زندگی سے زیادہ خوشگوار۔

❁ طَارَتْ بِهِمِ العَنْقاءُ: ان کو عنقا اڑا لے گئی (ایسی قوم کے لئے کہا جاتا ہے جو ہلاک ہو گئے اور ان کا کوئی فرد نہیں بچا۔ عنقاء ایک ایسا اسم ہے جس نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک خیالی پرندہ سمجھا جاتا ہے۔

❁ الطیرُ بالطَّیرِ یُصاد: پرندہ پرندہ کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے۔

❁ إِنَّ الطُّیُورَ علی أَشْکالِهَا تقعُ: پرندے اپنے ہم شکلوں پر اترتے ہیں۔

❁ أَطْیَشُ مِنْ فَرَاشَة: پروانہ سے زیادہ طیش میں آنے والا (کیونکہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتا ہے)

❁ یُطَیِّنُ عَیْنَ الشَّمْسِ: وہ سورج کی آنکھ پر مٹی کا لیپ کرتا ہے۔

(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو واضح اور صاف حق کو چھپائے)

ظ

❁ ظِئْرٌ رَؤُومٌ خیرٌ من أُمٍّ سَؤُومٍ: مہربان دایہ ملول ماں سے بہتر ہے (ظئر: دایہ، رؤوم: مشفق، مہربان، سؤوم: ملول، اکتایا ہوا)

❁ الظَّفَرُ بالضعیفِ هَزِیمَةٌ: کمزور پر فتح شکست ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کے ساتھ مغرورانہ سلوک کیا جائے یا جسے کمزور سمجھا جائے)

❁ ظِلُّ السُّلْطَانِ سَرِیعُ الزوال: بادشاہ کا سایہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔

❁ ظِلَالُ صیفٍ مَالَها قِطَارٌ: گرمیوں کے بادلوں کی قطار نہیں ہوتی (بے فیض مالدار کے لئے کہا جاتا ہے۔ ظلال: سایہ دار بادل وغیرہ۔

❁ ظُلْمُ المَرْءِ یصرعُهُ: آدمی کا ظلم ہی اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔

❁ الظُّلْمُ مَرْتَعُهُ وَخِیمٌ: ظلم کی چراگاہ مہلک ہے۔ (یعنی ظلم کی عاقبت مذموم ہے۔

❁ أَظْلَمُ مِنْ حَیَّة: سانپ سے زیادہ ظالم۔

❁ أَظْلَمُ من أفعَی: سیاہ سانپ سے زیادہ ظالم۔

❁ أَظْلَمُ مِنْ لَیْلٍ: رات سے زیادہ سیاہ۔

❁ أَظْمَأُ مِنْ رَمْلٍ: ریت سے زیادہ پیاسا۔

❁ یُصْبِحُ ظَمْآنَ وفِي البَحْرِ فَمُهُ: صبح کو پیاسا اٹھتا ہے حالانکہ منہ سمندر میں ہے۔ (مالدار کنجوس کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ ظَنُّ العَاقِلِ خَیْرٌ مِنْ یَقِینِ الجاهل: عقلمند کا گمان جاہل کے یقین سے بہتر ہے۔

❁ ماظَنُّكَ بجارِكَ؟ قَالَ ظَنِّي بنفسي: اپنے پڑوسی کے متعلق تیرا گمان کیا ہے؟ کہا وہ گمان جو اپنی ذات سے متعلق ہے۔ (آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے)

❁ أَكْثَرُ الظُّنُونِ مُیُونٌ: اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں۔ (میون مین بمعنی جھوٹ کی جمع)

❁ عَنْ ظَهْرِهَا تُحِلُّ وِقْرًا: وہ اپنی ہی کمر کا بوجھ کھول رہی ہے۔ (وقر: بھاری بوجھ، اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لئے قدم اٹھائے)

❁ ظَاهِرُ العِتَابِ خیرٌ مِن بَاطِنِ الحِقْدِ: ظاہری عتاب باطنی کینہ سے بہتر ہے۔ یہ عربوں کے اس قول کے قریب قریب ہے: وَیَبْقَى الوُدُّ مَا بَقِيَ العِتَابُ محبت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک عتاب باقی رہے)

ع

❁ عَبْدٌ وَحَلْيٌ فِي یَدَیه: غلام اور ہاتھ میں زیور (اس مال و دولت کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کا مالک اس کا اہل نہ ہو)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

❁ عَبْدٌ وَسُوَّم: غلام اور بے مہار (سَوَّمَهُ کا معنی کسی کو آزادی دے کر اس کی مرضی پر چھوڑ دینا۔ یہ مثل کمینہ شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جب اسے کھلی چھٹی حاصل ہو)

❁ عَبْدُ غَيْرِكَ حُرٌّ مِثْلُكَ: غیر کا غلام تمہاری طرح آزاد ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بے ہنر ہوتے ہوئے خود کو دوسروں پر فضیلت دے۔

❁ العَبْدُ يُقْرَعُ بِالعَصا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارَةُ: غلام کو لاٹھی سے مارا جاتا ہے جبکہ آزاد کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے۔

❁ العَبْدُ مَنْ لاعَبْدَ لَهُ: غلام وہ بھی ہے جس کا کوئی غلام نہ ہو۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کے پاس اس کا کام کرنے والا نہ ہو تو وہ اپنے کام خود ہی کرتا ہو)

❁ فِي الإِعْتِبَارِ غِنًى عَنِ الإِخْتِبَارِ: عبرت حاصل کرنے میں امتحان میں بے نیازی ہے۔ (یعنی جو شخص دیکھ کر عبرت حاصل کرے تو وہ آئندہ اس جیسے کام کا امتحان کرنے سے مستغنی ہو جاتا ہے)

❁ التَّعْبِير نِصْفُ التِّجَارَةِ: پرکھنا آدھی تجارت ہے۔

❁ مَنْ عَتَبَ عَلَى الدَّهْرِ طَالَتْ مَعْتَبَتُهُ: جس نے زمانہ پر عتاب کیا، اس کا عتاب طویل ہو گیا (کیونکہ زمانہ تکلیف سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ معتبہ بمعنی عتاب)

❁ العِتَابُ خَيْرٌ مِنْ مَكْتُومِ الحِقْدِ: عتاب چھپے ہوئے کینہ سے بہتر ہے۔

❁ العِتَابَ قَبْلَ العِقَابِ: سزا سے پہلے عتاب سے کام لے عتاب اس سے پہلے استعمل مضمر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی بگڑے ہوئے کو جہاں تک ممکن ہو عتاب کے ذریعے ٹھیک کرو اگر یہ مشکل اور ناممکن ہو تو سزا سے)

❁ لاعِتَابَ بَعْدَ المَوْتِ: موت کے بعد کوئی عتاب نہیں۔

❁ مُعَاتَبَةُ الإِخْوانِ خيرٌ مِنْ فَقْدِهِمْ: بھائیوں کی ناراضگی ان کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔ (یہ عربوں کے اس مقولہ جیسا ہے: وَفِي العِتَاب حياةٌ بَيْنَ أَقْوَام: (عتاب میں قوموں کے درمیان زندگی ہے)

❁ رُبَّ عِتْقٍ شرٌّ مِنْ رِقٍّ: کبھی کبھی آزادی بھی غلامی سے بدتر ہوتی ہے۔ (عِتْق: آزادی رِق: غلامی)

❁ عَثْرَةُ القَدَمِ أَسْلَمُ مِنْ عَثْرَةِ اللسان: قدم کی لغزش زبان کی لغزش سے زیادہ محفوظ ہے۔

❁ مَا كُلُّ عَثْرَةٍ تُقَالُ ولا كُلُّ فُرْصَةٍ تُنَالُ: نہ ہر لغزش معاف کی جاتی ہے اور نہ ہر موقعہ پھر ملتا ہے۔

❁ لا يَعْجَزُ القومُ إذَا تَعَاوَنُوا: باہمی تعاون ہو تو قوم عاجز نہیں ہوتی۔ (اس قوم کے لئے کہا جاتا ہے جو باہم تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کر کے کامیاب ہو)

❁ العَجْزُ رِيبَةٌ: عاجزی میں شک ہے۔ (یعنی انسان ...

کرے تو اسے اس تک راستہ مل جاتا ہے، لیکن اگر عاجزی کا اقرار کر لے تو اس کا کام مشکوک ہو جاتا ہے)

❁ العَجَلَةُ فُرْصَةُ العَجَزَة: جلدی عاجزوں کی فرصت ہے۔ (غور و فکر کی تعریف اور جلدی بازی کی مذمت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ يُعَدُّ لِكَلْبِ السُّوءِ كَلْبٌ يُعَادِلُهُ: برے کتے کے لئے ویسا ہی کتا تیار کیا جاتا ہے (یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بے وقوف سے ویسے ہی بے وقوف کے شر کو دور کرنے کے لئے مدد لی جائے)

❁ لَيْسَ مِنَ العَذْلِ سُرعَة العَذْلِ: ملامت میں جلدی کرنا انصاف نہیں۔ (عذر جاننے سے پہلے ملامت میں جلدی نہیں کرنی چاہئے)

❁ أَعْدَلُ مِنْ مِيزان: ترازو سے زیادہ منصف۔

❁ لاتَعْدَمُ الحَسْنَاءُ ذَامًّا: کوئی حسینہ عیب کے بغیر نہیں ہوتی۔ (ذام: عیب، مذمت، اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک غسانی بادشاہ نے ملک بن عمرو عدوانیہ کی لڑکی سے شادی کی جو اپنے زمانہ کی حسین ترین عورت تھی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس دلہن بنا کر بھیجی گئی تو اس نے اس میں ایک عیب محسوس کیا اور اسے وہ عیب پسند نہ آیا۔ اس موقع پر حسینہ نے یہ بات کہی جو اوپر مذکور ہے۔

❁ لايُعْدَمُ الحُوَارُ مِنْ أُمِّهِ حَنَّةً: اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی شفقت سے محروم نہیں رہتا۔ (حُوار: اونٹنی کا بچہ بوقت پیدائش یا اس وقت تک جب اس کا دودھ چھڑایا جائے۔ حَنّة: مہربانی، شفقت)

❁ العَدِيمُ مَنْ إحْتَاجَ إلى لَئيم: مفلس وہ ہے جو کمینہ کا محتاج ہو۔

❁ مَنْ تَعَدَّى الحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ: حق سے تجاوز کرنے والے کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔

❁ أَعْدَى مِنَ السُّلَيْكِ وأَعْدَى مِنَ الشَّنْفَرى: سلیک سے زیادہ تیز دوڑنے والا، شنفری سے زیادہ تیز دوڑنے والا۔ (أَعْدى عَدْو (بمعنی تیز دوڑنے) سے اسم تفضیل ہے۔ سلیک اور شنفری عربوں کے ہاں مشہور تیز دوڑنے والے تھے)

❁ أَعْدَى مِنَ العَقْرَب: بچھو سے زیادہ دشمن (عداء اور عداوت سے اسم تفضیل کا صیغہ)

❁ أَعْدَى مِنَ الجَرَب: کھجلی سے زیادہ متعدی (یہاں اعدی، عدوی (متعدی مرض) سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے)

❁ إيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ منه: اس بات سے بچو جس پر معذرت کی جائے۔ (یعنی ایسا کام نہ کرو جس پر تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے)

❁ والعِذْرُ عِنْدَ كِرَامِ النّاس مقبولٌ: معذرت شریف لوگوں کے ہاں قبول کی جاتی ہے۔

❁ لَعَلَّ لَهُ عِذْرًا و أنتَ تلوم: ہوسکتا ہے اس کے پاس عذر ہو حالانکہ تو اسے ملامت کر رہا ہے (اس شعر کا مصرع اول یہ ہے: تَأَنَّ ولا تعجل بلومك صاحبا (آہستگی سے کام لے اور اپنے ساتھی کو ملامت کرنے

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

میں جلدی نہ کر) اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسے شخص کو ملامت کرے، جس کے پاس عذر ہو اور اسے اس عذر کا پتہ نہ ہو)

❁ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ: جس نے آگاہ کر دیا اس نے عذر پیش کر دیا۔ (یعنی جس نے تجھے پڑنے والی مصیبت سے متنبہ کر دیا وہ تمہارے نزدیک معذور ہو گیا)

❁ المَعَاذِرُ مَكَاذِبُ: عذر جھوٹ بھی ہوتے ہیں۔ (معاذر، معذرت کی جمع، مکاذب کذب کی جمع جیسے محاسن حسن کی جمع ہے۔ یہ عربوں کے اس قول جیسا ہے: المعاذير قد يشوبها الكذب: معذرتوں میں بھی جھوٹ ملا ہوتا ہے)

❁ رَجَّالَةٌ تَعْتَقِلُ الرِمَاحَ: پیدل نیزوں کو گھوڑوں کے پہلو اور رانوں کے درمیان پکڑے ہوئے ہیں۔ (رَجَّالَة: راجل کی جمع ہے، یعنی جنگ میں پیادہ فوج کے سپاہی۔ اعتقال سوار کا گھوڑے کے پہلو اور ران کے درمیان اپنا نیزہ پکڑے رکھنا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو حیثیت سے زیادہ شیخی مارے)

❁ عَرِّضْ لِلْكَرِيمِ ولاتُبَاحِتْ: شریف سے اشارہ کنایہ سے کہو، صاف مت کہو۔ (یعنی شریف سے اپنی ضرورت واضح اور صاف صاف نہ کہو کیونکہ شریف کے لئے اشارہ کنایہ ہی کافی ہوتا ہے)۔

❁ إنَّ فی المَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عن الكذِبِ: کنایوں میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے (معاریض معراض کی جمع ہے اور اس کا معنی ظاہری معنی چھوڑ کر دور کے معنی مراد لینا ہے۔ مندوحہ کا معنی گنجائش۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہے)

❁ عَرَفَتِ الخَيْلُ فُرْسَانَها: گھوڑوں نے اپنے سواروں کو پہچان لیا ہے۔ (حریف کی طاقت کا اندازہ لگا کے اس کے راستے سے ہٹ گیا)

❁ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ: جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔

❁ مَنْ عُرِفَ بِشَيْءٍ نُسِبَ اليه: جو کسی چیز کے ذریعے پہچانا گیا اس کی طرف منسوب کیا گیا۔

❁ لايَعْرِفُ الحَيَّ مِنَ اللَّيِّ: وہ حق کو باطل سے ممتاز نہیں کر سکتا۔ (کہا گیا کہ حی حق اور لی باطل کے معنی میں ہے۔ بعض کے نزدیک حی ظاہر کلام اور لی پوشیدہ کلام کو کہا جاتا ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو معاملہ کی حقیقتوں سے آگاہ نہ ہو)

❁ لايَعْرِفُ العودَ كَالعَاجِمِ: لکڑی کو دانت سے کاٹنے والے کی طرح کوئی دوسرا اسے نہیں جان سکتا (عجم العود کا معنی لکڑی کی سختی نرمی جانچنے کے لئے اسے دانتوں سے کاٹنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو صرف وہی جان سکتا ہے جو اس کی جانچ پڑتال کر لے۔

❁ مَايَعْرِفُ قبيلاً مِنْ دَبِيْرٍ: وہ آنے والے کو جانے والے سے ممتاز نہیں کر سکتا۔

❁ لا يعرف الكوعَ من البوع: وہ ہاتھ کی ہڈی کو پاؤں کی ہڈی سے ممتاز نہیں کر سکتا۔

❁ لايَعْرِفُ الهِرَّ من البِرِّ: وہ بلی اور چوہے میں فرق نہیں کرتا۔ (ھر: بلی، بر: چوہا وغیرہ وغیرہ)

❁ الإعْتِرَافُ يَهْدِمُ الإقْتِرَافَ: جرم کا اعتراف جرم کے ارتکاب کو ختم کر دیتا ہے۔

❁ مَنْ عَزَّ بَزَّ: غالب آنے والا فتح یاب ہوتا ہے۔

❁ اِذَا عَزَّ اَخُوكَ فَهُنْ: جب تیرا بھائی عزت پائے تو تو نرم ہو جا (یعنی تیرے اپنے دوست کے ساتھ نرمی سے کوئی نقصان نہیں ہو گا کہ تو طیش کھائے بلکہ یہ تیری طرف سے حسن خلق اور مروت ہے۔ نیز یہ معنی ہے کہ اگر تیرا بھائی سختی کرے تو اس سے نرمی اختیار کر کیونکہ اگر تو بھی سختی کرے گا تو تعلق ختم ہو جائے گا)

❁ عِزُّ الرَجُلِ استغناؤه عن الناس: آدمی کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔

❁ اَعَزُّ مِنْ كُلَيْبِ وَائِلٍ: وائل کے کتے سے زیادہ معزز (قبیلہ ربیعہ کے سردار کلیب بن ربیعہ بن حرث کی اتنی دھاک تھی کہ اس کی چراگاہ کے کوئی قریب نہ پھٹکتا تھا۔ کسی شکار کو پناہ دیتا تو کسی کو جوش نہ آتا۔ جب کسی پسندیدہ باغ یا چشمہ سے گزرتا تو وہ اپنے ایک چھوٹے سے کتے کو وہاں چھوڑ دیتا، جہاں تک اس کے بھونکنے کی آواز جاتی وہ اس کا مخصوص قطعہ ہو جاتا۔ کلیب بن ربیعہ کا نام وائل تھا۔ اس چھوڑے ہوئے کتے کی چراگاہ کی حفاظت پر کہا جانے لگا: اعز من كليب وائل پھر یہ نام ہی بالادست ہو گیا اور وائل کا نام سمجھا جانے لگا)

❁ أَعَزُّ مِنَ الزَبَّاءِ: زبا سے زیادہ معزز (زبا عمالقہ کی ایک عورت اور حیرہ کی ملکہ تھی لشکر لے کر خود حملہ آور ہوا کرتی تھی۔ اس نے سموأل کے دو انتہائی مضبوط قلعوں (مارد اور ابلق نامی) پر حملہ کیا تھا اور وہ بلند ہمت، ناقابل تسخیر قوت اور عزم مصمم میں مشہور تھی)

❁ أَعَزُّ مِنْ أَنْفِ الأَسَدِ: شیر کی ناک سے زیادہ عزت والا۔

❁ أَعَزُّ من جبهة الأسد: شیر کی پیشانی سے زیادہ عزت والا۔

❁ أَعَزُّ مِن عُقَابِ الجو: فضا کے عقاب سے زیادہ عزت والا۔ (ان تین مقولوں میں مراد ناقابل تسخیر قوت مراد ہے)

❁ أَعَزُّ مِنَ الأَبْلَقِ العَقُوقِ: ابلق حاملہ گھوڑے سے زیادہ نادر (اس چیز کے لئے کہا جاتا ہے جو نادر الوجود ہو یا نہ ہو سکتی ہو۔ کیونکہ ابلق نر کو کہتے اور عقوق حاملہ گھوڑی کو اور نر حاملہ نہیں ہوتا۔ انسان استحقاق سے زیادہ چیز طلب کرے یا اسے حاصل کرنا ممکن ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ يطلب الابلق العقوق گویا وہ ایسی چیز طلب کرتا ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی)

❁ أَعَزُّ مِن بَيْضِ الأَنُوقِ: کرگس (گدھ) کے انڈوں سے زیادہ نایاب (انوق: گدھ (کرگس) کو کہا جاتا ہے کہ اس کے انڈے نایاب ہوتے ہیں کیونکہ انہیں حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھ

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کے انڈے پہاڑوں کی چوٹیوں اور دور دراز اور دشوار گزار جگہوں پر ہوتے ہیں)

❁ أَعَزُّ مِنَ الغُرابِ الأَعْصَم: سفید ٹانگ والے کوے سے زیادہ نایاب۔ اعصم جس کی ایک ٹانگ سفید رنگ کی ہو اور کوا ایسا نہیں ہوتا۔ اس چیز کے لئے کہا جاتا ہے جو نادر الوجود ہو یا بالکل ہی نہ ہو)

❁ اعزُّ مِنَ الکِبْرِیْتِ الأحْمَر: سرخ گندھک سے زیادہ نایاب۔

❁ اعزّ مِنْ عَنْقاءِ مُغْرِب: سفید عنقاء سے زیادہ نایاب۔

❁ أَعَزُّ مِنْ مُخِّ البعوض: مچھر کے مغز سے زیادہ نایاب (ان تینوں مقولوں میں نادر الوجود یا عدیم الوجود چیز کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ أنَّ بَعْدَ العُسْرِ یُسْرًا: فراخی تو تنگی کے بعد ہوتی ہے۔

❁ لَیْسَ ھٰذَا بِعُشِّكَ فَادْرُجِی: یہ تیرا گھونسلا نہیں ہے لہٰذا چلی جا۔ (یعنی اس معاملہ میں تیرا کوئی حق نہیں۔ اس لئے اس کو چھوڑ دے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خود کو اپنے درجہ سے بلند کرے یا ایسا کام کرے جو اسے کرنا نہیں چاہئے)

❁ أَعْشَبْتَ فَانْزِل: تو نے گھاس پالیا لہٰذا اتر جا۔ (أعْشَبَ الرجلُ: تر گھاس پالینا۔ یعنی تو نے اپنی ضرورت حاصل کر لی بس قناعت کر)

❁ بِکُلِّ عُشْبٍ آثارُ رَعْیٍ: ہر گھاس میں چرنے کے نشان ہوتے ہیں۔ (یعنی جہاں دولت ہو وہاں مانگنے والے جمع ہو جاتے ہیں)

❁ تَعَاشَروا کَالإخْوَانِ و تَعَامَلُوا کَالأجَانِبِ: بھائیوں کی طرح رہو اور جنسوں کی طرح معاملہ کرو (یعنی تجارت میں کسی پر احسان نہیں کیا جاتا)

❁ إنَّ العصا مِنَ العُصَیَّة: لٹھ لاٹھی سے ہوتا ہے۔ (کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ بڑی چیز شروع میں چھوٹی ہوتی ہے۔ عُصَیَّہ: عصا کی تصغیر ہے یعنی لٹھ سے لاٹھی ہے۔ ایک معاملہ سے دوسرے کے آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے عصا ایک گھوڑے کا نام ہے اور عصیہ اس کی ماں کا نام ہے۔ مراد یہ کہ گھوڑا اپنی ماں سے اصل اور نسلی شرافت میں مشابہ ہوتا ہے۔ آدمی کی اپنے باپ سے مشابہت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ بینَ العَصَا ولِحَائِها: لاٹھی اور اس کی چھال کے درمیان۔ (لحاء: لکڑی کی چھال۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو دو محبت کرنے والوں یا سگے بھائیوں کے درمیان آجائے)

❁ رُبَّ عَطَبٍ تَحْتَ طَلَبٍ: طلب کے نیچے بہت سی تباہیاں ہیں)

❁ لاعِطْرَ بَعْدَ عَرُوس: عروس کے بعد کوئی عطر نہیں۔ (یہ اسماء بنت عبداللہ عذریہ کا قول ہے۔ اس کی قوم سے اس کا شوہر عروس نامی تھا۔ عروس کے مرنے پر نوفل نامی نے اس سے شادی کر لی جو پہلے شوہر کی نسبت کنجوس، بدصورت اور گندہ دہن تھا۔ اس کے ساتھ جاتے ہوئے ایک بار اس کا گزر عروس کی قبر پر ہوا۔ تو وہ بیٹھ کر رونے، مرثیہ کہنے اور اپنے نئے شوہر پہ ڈھال کر بات کرنے لگی۔ اس پر اس شوہر نے اسے اٹھنے کا حکم دیا۔ جب وہ اٹھی تو اس سے عطر کی شیشی نیچے گر گئی۔ نوفل نے اس سے کہا اپنی شیشی اٹھالے۔ اس پر اس نے کہا تھا: لاعِطْرَ بَعْدَ عروس)

❁ بَیْنَھُم عِطْرُ مَنْشِم: ان کے درمیان منشم کا عطر ہے۔ (منشم مکہ کی ایک عطر فروش عورت کا نام تھا۔ بنی خزاعہ اور بنی جرھم جنگ پر جاتے ہوئے اس کا عطر لگاتے۔ ان کے درمیان دونوں قبیلوں کے بہت سے لوگ مارے جاتے۔ چنانچہ کہا جاتا أشأم من عطر منشم (منشم کے عطر سے زیادہ منحوس۔ بڑے شر کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أَعْطَشُ مِنْ ثُعالَة: لومڑی سے زیادہ پیاسا (ثعالہ: لومڑی۔ بعض کا کہنا ہے کہ ثعالہ ایک شخص کا نام تھا، جو پیاسا مر گیا)

❁ أعْطَشُ مِن رَمْلٍ: ریت سے زیادہ پیاسا۔

❁ أعْطَشُ مِن قِمَعٍ: قیف سے زیادہ پیاسا۔

❁ أعْطاهُ غَیْضًا مِن فَیْض: اس نے اسے بہت میں سے تھوڑا دیا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بہت میں سے تھوڑی چیز کی سخاوت کرے)۔

❁ أُعْطِیَ مَقُولاً وعَدِمَ مَعْقُولاً: اسے قوت اظہار تو دی گئی مگر معقولیت سے محروم رکھا گیا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی گفتگو عقل کی تائید سے خالی ہو)۔

❁ وَإنَّما نُعْطِی الذی أُعْطِینَا: ہم تو وہی دے سکتے ہیں جو ہمیں دیا گیا۔ (اس کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص کے ہاں مسلسل تین لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب اس کی بیوی نے تیسری بیٹی کو جنا، تو وہ دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا:

مالأبی الذلفاء لا یأتینا
وھو فی البیت الذی یلینا
یغضب ان لم نلد البنینا
وانما نُعطی الذی أُعطینا

(ابوذلفاء کو کیا ہو گیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ حالانکہ وہ ہمارے قریبی گھر میں ہے۔ ہم لڑکے پیدا نہ کریں تو وہ غصہ ہوتا ہے، جبکہ ہم تو وہی دے سکتے ہیں جو ہمیں دیا گیا۔ اس شخص نے یہ شعر سنے تو خوش ہو کر اپنی بیوی کے پاس آگیا۔
کسی چیز کے مالک نہ ہونے پر معذرت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أعْطِ أخاكَ تَمْرَةً فإنْ أبَى فَجَمْرَةً: اپنے بھائی کو کھجور دے، انکار کرے تو انگارہ دے (مراد یہ ہے کہ ساتھی سے بھلائی کرنی چاہئے لیکن وہ اس پر ناخوش ہو تو سختی سے کام لیا جائے)

❁ أعْطِ القَوْسَ بَارِیَهَا: کمان اس کے بنانے والے کو دو (یعنی اپنے کام میں اس کے جاننے والے اور ماہر سے مدد لینی چاہئے)

❁ مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ المَصَائِبِ اِبْتَلاهُ اللّٰہُ بِکِبَارِھَا: جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے)

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ العُقُوق ثُكْلُ مَن لَمْ يَثكَل: اولاد کی سرکشی ان لوگوں کا اولاد کھو دینا ہے جنہوں نے اولاد نہ کھوئی ہو۔ (کیونکہ والد کو جب اپنے بیٹے کی طرف سے اطاعت نہ ملے تو یہ بیٹے کو کھودینے کے برابر ہے)

❁ العُقُوبَة أَلأمُ حَالاتِ القُدْرَة: سزا قدرت کی حالتوں میں سب سے گھٹیا درجہ ہے (یعنی معاف کرنا ہی شریف النفسی ہے)

❁ يَاعَاقِدُ اذكُرْ حَلًّا: اے گرہ لگانے والے اسے کھولنے کے بارے میں بھی سوچ (عواقب پر غور خوض کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ لِكُلِّ عَقْدٍ حَلٌّ: ہر گرہ کھل کر رہتی ہے۔

❁ أَعْقَدُ مِنْ ذَنَبِ الضَّبِّ: گوہ کی دم سے زیادہ گرہ دار چھپکلی کی طرح گوہ کی دم بھی کئی گرہوں والی ہوتی ہے)

❁ أَعْقِلْ لِسَانَكَ إلا فِي ارْبَعَة: حَقٍّ تُوضِحُهُ وبَاطِلٍ تدحضه ونعمةٍ تشكرها و حِكْمةٍ تُظْهِرُهَا: اپنی زبان روک سوائے ان چار موقعوں کے (۱) جب حق کی وضاحت مطلوب ہو (۲) باطل کو غلط ثابت کرنے کے لئے (۳) نعمت پر شکریہ کے لئے (۴) حکمت کے اظہار کے لئے)

❁ العَقْلُ وَزِيرٌ نَاصِحٌ: عقل خیر خواہ وزیر ہے۔

❁ عَقْلُ المرأةِ فی جَمَالِهَا و جَمَالُ الرَّجُلِ فِي عَقْلِهِ: عورت کی عقل اس کی خوبصورت میں ہے اور مرد کی خوبصورتی اس کی عقل میں۔

❁ أَعْقَلُ النَاسِ أَعْذَرُهُمْ لِلنَّاسِ: سب لوگوں سے زیادہ عقلمند وہ ہے جو لوگوں کا عذر سب سے زیادہ قبول کرے۔

❁ بِعِلَّةِ الزَرْعِ يُسْقَى القَرْعُ: کھیتی کے بہانے کدو کو بھی پانی مل جاتا ہے۔

❁ بِعِلَّةِ الوَرَشَان يَأكُلُ رُطَبَ المُشَان: وہ ورشان کے بجائے پکی کھجوریں کھاتا ہے (ورشان: کبوتر کی قسم کا ایک پرندہ۔ مُشَان کھجور کی ایک قسم یا بہترین قسم (مراد یہ ہے کہ شکاری شکار کا پیچھا کرنے کے بہانے نخلستان میں گھس کر کھجوریں کھالیتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ظاہر کچھ کرتا ہے مگر مراد کوئی دوسری چیز ہوتی ہے)

❁ أَعْلَقُ مِنْ قُرَادٍ: چیچڑی سے زیادہ چمٹنے والا۔

❁ لَيْسَ المُتَعَلِّقُ كالمُتَأنِّقِ: تھوڑی چیز پر اکتفا کرنے والا اپنی پسند کی چیز منتخب کرنے والے کی طرح نہیں ہوسکتا۔ (متعلق: تھوڑی چیز پر اکتفا کرنے والا۔ متانق: اپنی پسند کی چیز منتخب کرنے والا)

❁ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ (اَوْمِنْ حَيْثُ) تؤكَلُ الكَتِفُ: وہ جانتا ہے کہ شانہ کو کہاں سے یا کس جگہ کھایا جاتا ہے (ہوشیار آدمی کے لئے کہا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ شانہ نیچے کی طرف سے کھایا جائے اوپر سے کھانا تکلیف دے ہوتا ہے۔ پتلا شوربہ شانہ کے گوشت اور ہڈی میں رواں ہوتا ہے۔ اوپر سے پکڑنے پر شوربا تم پر گرے گا۔ نیچے سے پکڑنے پر ہڈی سے اتر جائے گا)

❁ مَاكُلُّ مَايُعْلَمُ يُقَالُ: ہر چیز جو علم میں آئے کہی نہیں جاتی۔

❁ لاتُعَلِّمِ اليَتِيمَ البُكَاءَ: یتیم کو رونا نہ سکھا۔

❁ عِلْمُ الشَيْءِ ولا جَهْلُهُ: کسی چیز کا علم اور عدم علم (برابر نہیں)

❁ العِلْمُ فِي الصُدور لافِي السُطُور: علم سینوں میں ہے سطروں میں نہیں۔

❁ إنَّهُ لَعَالِمٌ بِمنَابِتِ القِصِيصِ: اسے قصیص کے اگنے کی جگہوں کا پورا پورا علم ہے۔ کہتے ہیں قصیص قصیصہ کی جمع ہے جو چھوٹی جھاڑی کو کہا جاتا ہے اور کھمبی کے نزدیک اگتی ہے ان جھاڑیوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کھمبی قریب ہوگی۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے اپنی ضرورتوں کا پتہ ہو)

❁ لِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ: ہر عالم سے کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے۔ هفوه بمعنی لغزش اس مفہوم کا حامل یہ قول ہے لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَة (ہر گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، لِكُلِّ صَارِمٍ نَبْوَة (ہر تلوار کبھی نہ کبھی اچٹ جاتی ہے)

❁ العُلَمَاءُ اُمَنَاءُ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ: علماء مخلوق خدا میں خدا کے امین ہیں۔

❁ أَعْلَمُ بِهَا مَنْ غصّ بها: لقمہ سے بہتر واقف وہی ہوتا ہے، جو کھاتے ہوئے اس کے گلے میں اٹک جائے (یعنی جس کی وجہ سے اسے اچھو لگ جائے۔ هاء کی ضمیر کا دونوں جگہ پر مرجع لقمہ ہے اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس نے معاملات کا تجربہ کیا ہو، ان میں عملی طور پر حصہ لیا ہو، ان سے واقف ہو اور یوں ان کا زیادہ جاننے والا ہو گیا ہو۔)

❁ أعْلامُ أرْضٍ جُعِلَتْ بَطَائِحا: زمین کے پہاڑ نشیبی علاقے بنادیئے گئے (اعلام: پہاڑ (جمع) بَطَائِح بَطِيحَة کی جمع نشیبی زمین۔ معزز لوگوں کے لئے کہا جاتا ہے جو ذلیل ہو گئے ہوں)

❁ مَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ طَالَ هَمُّهُ: جس کی ہمت بلند ہو اس کا فکر طویل ہوگا۔

❁ أَعْمَرُ مِنْ حَيَّةٍ: سانپ سے زیادہ لمبی عمر والا (عربوں کا خیال تھا کہ سانپ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ سانپ بڑا ہو کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قتل ہو جائے)

❁ أَعْمَرُ مِنْ نَسْرٍ: گدھ سے زیادہ عمر والا (عربوں کے خیال میں گدھ کی عمر پانچ سو سال ہوتی ہے)

❁ لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ ولِكُلِّ كلامٍ جَوَابٌ: ہر عمل کے لئے جزا ہے اور ہر کلام کا جواب۔

❁ الأعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا: عملوں کا اعتبار ان کے انجام پر ہے۔ (یہ عربوں کے اس مقولہ کی مانند ہے: خير الامور احمدها مَغَبَّةً بہترین کام وہ ہے جو قابل تعریف انجام کا حامل ہو)

❁ إيَّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَةُ: پڑوسن! میں تجھ سے ہی کہتا ہوں، میری بات سن لے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کہے کچھ اور مراد

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کچھ اور ہو)

❁ وَمِنَ الْعَنَاءِ رِيَاضَةُ الْهَرِمِ: عمر رسیدہ شخص کی ریاضت ایک زحمت ہے (یعنی عمر رسیدہ کی جسمانی حالت کے خلاف علاج ایک سخت اور کمزور عمل ہے)

❁ عَادَ الأَمْرُ إِلَى نِصَابِهِ: معاملہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا (ایسے معاملہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جوان لوگوں کے سپرد کیا جائے جو اس کی قدرتی ودیعت کے حامل ہوں)

❁ عَادَتْ لِعِتْرِهَا لَمِيسُ: لمیس اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی (عتر: اصل۔ لمیس: ایک عورت کا نام۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنی بری عادت کی طرف لوٹ جائے جو وہ چھوڑ چکا ہو۔ "ل" یہاں الی کے معنی میں ہے)

❁ عَوَّدْتَ كِنْدَةَ عَادَةً فَاصْبِرْ لَهَا: تو نے کندہ کو ایک عادت ڈال دی ہے لہٰذا صبر کر (کندہ ایک عورت کا نام)

❁ عُودِي إِلَى مَبَارِكِكِ: اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جا (مَبْرَك اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ جمع مبارک مثل کی اصل بھاگنے والے اونٹوں کے بارے میں ہے۔ مراد اپنے پہلے کاروبار کی طرف لوٹ جا)

❁ اَلْعَوْدُ أَحْمَدُ: لوٹنا زیادہ قابل تعریف ہے (ہوسکتا ہے کہ احمد حامد سے افعل التفضیل کا صیغہ ہو اس صورت میں معنی ہوتا ہے جب انسان اچھا کام شروع کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لئے تعریف کماتا ہے، دوبارہ کرے تو وہ اپنے لئے زیادہ تعریف کمانے والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ افعل مفعول کے معنی میں ہو، اس صورت میں مراد ہوگی اچھے کام کی ابتداء قابل تعریف ہوتی ہے اس کام کو دوبارہ کرنا تعریف کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اسی موضوع پر شاعر کا قول ہے:

وأَحْسَنَ عَمْرٌو في الذي كان بيننا
وإِنْ عَادَ بالاحسان فالعود احمد

(عمرو نے ہمارے باہمی معاملہ میں اچھا کام کیا، اگر وہ یہ اچھائی دوبارہ کرے گا تو یہ مزید قابل تعریف ہوگا)

❁ لِكُلِّ عُودٍ عُصَارَةٌ: ہر لکڑی کا ایک نچوڑ ہے۔ (عصارة: نچوڑ۔ رس۔ لکڑی میٹھی ہوگی تو اس کا رس میٹھا ہوگا اگر کڑوی تو رس بھی کڑوا ہوگا۔ یعنی ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے)

❁ مَا كُلُّ عَوْرَةٍ تُصَابُ: (عورة طالب کے لئے مطلوب سے ظاہر ہونے والی کمزوری یعنی) دشمن سے ظاہر ہونے والی ہر کمزوری سے تم اپنی مراد حاصل نہیں کرسکتے۔

❁ بِئْسَ الْعِوَضُ مِنْ جَمَلٍ قَيْدُهُ: اونٹ کی جگہ اس کی رسی برا بدلہ ہے (اس کی اصل یہ ہے کہ ایک چرواہا اپنے مالک کا اونٹ بیچ کر اس کے پاس اونٹ کی رسی لایا تو اس نے یہ بات کہی)

❁ مَنْ أَعَانَكَ عَلَى الشَّرِّ ظَلَمَكَ: جس نے برے کام میں تیری مدد کی اس نے تجھ پر ظلم کیا۔

❁ أَعِنْ أَخَاكَ وَلَوْ بِالصَّوْتِ: اپنے بھائی کی مدد کر چاہے آواز سے ہی ہو (مدد کرنے پر اکسانے پر کہا جاتا ہے)

❁ أَعِنِّي وَخَلَاكَ ذَمٌّ: میری مدد کر، اور مذمت تجھ سے دور ہو جائے گی۔ طلب امداد کے باوجود مدد نہ کرنے کا عیب دور ہو جائے گا۔

❁ مَا يُعْوِي وَلَا يُنْبِحُ: نہ غرانے کا نہ بھونکنے کا (بیکار، نکما) کہا جاتا ہے نبح الكلبُ فلاناً و نَبَحَ عليه: کا معنی کتے کا کسی پر بھونکنا ہے۔ نباح متعدی ہو تو عوا کے معنی دیتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے مَا يُعْوِي وَلَا يُنْبِحُ یعنی حقارت کی وجہ سے اس سے حساب نہیں چکایا جاتا اور نہ ہی اس سے اچھی یا بری بات کہی جاتی ہے۔ ما يَعْوِي ولا يَنْبَحُ بھی اس معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نہ خوشخبری دیتا ہے نہ ڈراتا ہے۔ کیونکہ کتے کا بھونکنا مہمان۔ کے آنے کی خوشخبری دیتا ہے اور بھیڑیے کا غرانا بکریوں پر حملہ کی خبر دیتا ہے۔ یعنی خبر کے حصول اور شر دور کرنے میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

❁ لَافِي الْعِيرِ وَلَا فِي النَّفِيرِ: نہ قافلہ میں نہ اس سے کم کے ٹولہ میں (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی اہم کام کے لئے موزوں نہ ہو اور بے سودگی کی وجہ سے بنظر حقارت دیکھا جائے۔ عیر: گدھوں یا اونٹوں کا قافلہ یا مطلق قافلہ۔ النفیر: دس سے کم لوگوں کا ٹولہ (اس کی اصل قریش کا قافلہ ہے جو شام سے ابوسفیان کے ساتھ آیا تھا۔ نفیر اس قافلہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لئے عتبہ بن ربیعہ کے لئے نکلا تھا۔ جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا۔ قافلہ اور ٹولہ میں شرکت نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی)

❁ مَهْمَا تَعِشْ تَرَهُ: جتنا عرصہ بھی تو زندہ رہے دیکھ لے گا (ترہ سکتہ کے لے ہے تری کا مفعول محذوف ہے۔ اصل یوں ہے مَا دُمْتَ تَعِيشُ تَرى اشياءً عجيبة: جب تک تو زندہ رہے گا عجیب وغریب واقعات دیکھے گا)

❁ عِشْ تَرَ مَالَمْ تَرَ: زندہ رہ وہ دیکھ جو تو نے نہیں دیکھا (یعنی جو لمبی عمر پائے گا وہ ایسے حوادث دیکھے گا جن میں نصیحت ہوگی)

❁ عِشْ رَجَبًا تَرَ عَجَبًا: رجب کے مہینے تک زندہ رہ حیرت ناک واقعات دیکھے گا (حرث بن عباد ثعلبی نے اپنی زبان دراز بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ جس نے ایک شخص کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ شخص ایک دن حرث سے ملا۔ حرث نے اسے اپنی مطلقہ کے نزدیک اپنی حیثیت سے آگاہ کیا اور کہا عش رجبا تر عجبا مطلقہ کی عدت کو رجب کے مہینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے دہشتناک واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ حارث کی مراد یہ تھی کہ جب وہ اس عورت کے ساتھ رہے گا تو اس کی معاشرت بد کے حیران کن واقعات دیکھے گا)

❁ عِشْ قَنِعًا تكن مَلِكًا: قانع ہو کر زندگی گزار بادشاہ ہو جائے گا۔

❁ اَلْعَيْشُ نُجْعَةٌ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ: زندگی تو روزی کی تلاش کا نام

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہے اور جنگ دھوکے کا۔

❁ أنتَ مَرَّةً عَيْشٌ ومَرَّةً جَيْشٌ: تو کبھی زندگی ہے کبھی لشکر (یعنی کبھی نفع حاصل کرتا کبھی نقصان اٹھاتا ہے یا کبھی میرے ساتھ ہوتا ہے کبھی میرے خلاف۔ یہ معنی بھی ہیں۔ کبھی خوشحالی میں کبھی تنگ حالی میں ہوتا ہے۔ جیسے اليوم خمرٌ وغدًا امرٌ)

❁ عَيْنٌ عَرفَتْ فَذَرَفَتْ: آنکھ نے پہچان لیا اور بھر آئی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی معاملہ کو دیکھ کر اس کی حقیقت جان لے)

❁ عَيْنُ الهَوَى لاتصدُق: خواہشات کی آنکھ سچی نہیں ہوتی۔

❁ عَيْنُهُ فِرارُهُ: اس کی آنکھ ہی دانت دیکھ لینا ہے۔ (فرَّ الدَّابَّةَ فِرارًا جانور کے دانت دیکھنا تا کہ اس کی عمر معلوم ہو۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن کو ظاہر کرتا ہو اور یوں اس کو آزمانے کی ضرورت نہ رہے)

❁ عَيْنُكَ عَبْرَى والفُؤادُ فِي دَدٍ: تیری آنکھ رونے والی ہے اور دل لہو ولعب میں ہے۔ (عينٌ عَبْرَى: رونے والی آنکھ۔ دد: لہو ولعب۔ ددکا لام کلمہ (دد کا لام لمہ ومحذف ہے) واو محذوف ہے جیسے غد کا لام کلمہ محذوف ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو تیرے غم پر غم کا اظہار کرے اور اس کے دل میں خوشی پھوٹ رہی ہو۔ ہمارے ہاں مگر مچھ کے آنسو اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔

❁ رُبَّ عَيْنٍ أنَمُّ من لِسَانٍ: بہت سی آنکھیں زبان سے زیادہ چغل خور ہوتی ہیں۔ (اس معنی میں یہ قول ہے۔ لسان الحال ابین من لسان المقال (لسان حال لسان قول سے زیادہ واضح ہوتی ہے)

❁ بِعَيْنٍ ترَانِي يَاجَمِيلُ أراكَ: جمیل! جس آنکھ سے تو مجھے دیکھتا ہے میں بھی تجھے اسی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔

❁ لَيْسَ لِعَيْنٍ مَارَأَتْ: کسی آنکھ کے لئے وہ چیز نہیں ہوتی جسے وہ دیکھے۔

❁ العِيَانُ لاَ يَحْتَاجُ إلَى البيان: اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو بیان کی ضرورت نہیں۔ (عیاں راچہ بیاں)

❁ عَيٌّ صَامِتٌ خَيْرٌ مِنْ عَيٍّ نَاطِقٍ: خاموش عاجز بولنے والے عاجز سے بہتر ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اچھی طرح بات نہ کر سکے اور خاموشی کے فائدے اٹھائے)

❁ أوّلُ العِيِّ الاحتلاط: پہلی عاجزی غضب میں آنا ہے۔ (احتلاط: غضب۔ معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے حریف کو ناقابل تردید دلیل سے پیچھے ہٹانے سے قاصر رہے تو غصہ ظاہر کرتا ہے تا کہ اس کے ذریعے حریف سے جان چھڑا سکے۔

❁ أعْيَا مِن بَاقِلٍ: باقل سے زیادہ عاجز۔ باقل قبیلہ ربیعہ کے ایک شخص کا نام تھا۔ اس کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ اس نے ایک ہرن گیارہ درہموں میں خریدا جب وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا ہرن کتنے میں خریدا ہے۔ باقل نے اپنے ہاتھ پھیلائے زبان نکال کے گیارہ کہے۔ ہرن جو اس کی بغل کے نیچے تھا بھاگ گیا)

غ

❁ غثُّكَ خَيْرٌ مِنْ سَمِينِ غَيْرِكَ: تمہارا لاغر غیر کے فربہ سے بہتر ہے۔ (یعنی اپنے لاغر پر قناعت کرو لوگوں کے پاس کسی چیز کی طمع نہ کرو خواہ فربہ ہو)

❁ غَدَرَكَ مَنْ دَلَّكَ عَلَى الإسَاءَةِ: جس نے برائی کی طرف تمہاری رہنمائی کی اس نے تمہیں دھوکا دیا۔

❁ أغْدَرُ مِنْ غَدِيرٍ: تالاب سے زیادہ دھوکے باز (کیونکہ تالاب کچھ عرصہ بعد خشک ہو جاتا ہے اور زمین پانی جذب کر لیتی ہے)

❁ إنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ قَرِيبٌ: آنے والی کل اس کا انتظار کرنے والے کے لئے قریب ہے۔ (سب سے پہلے یہ بات قراد بن اجدع نے نعمان بن منذر سے کہی تھی۔ یہ پورا شعر یوں ہے:

فَإنْ يَكُ صدرُ هَذا اليوم ولَّى
فَإنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ قريبُ

(اگر آج کے دن کے آغاز نے منہ پھیر لیا ہے، تو کوئی بات نہیں کل کے منتظر کے لئے آنے والا کل قریب ہے)

❁ عَسَى غَدٌ لِغَيْرِكَ: ممکن ہے آنے والا کل تیرے غیر کے لئے ہو (یعنی کسی دوسرے شخص کے لئے ہو لہٰذا آج کا کام کل تک ملتوی نہ کر، شاید وہ تجھے کل کو نہ مل سکے)

❁ لِكُلِّ غَدٍ طَعَامٌ: ہر آئندہ کل کے لئے کھانا ہے۔ (اللہ کے فضل پر توکل کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أغَرُّ مِنْ سَرَابٍ: سراب سے زیادہ دغا دینے والا (کیونکہ پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے)

❁ أغَرُّ مِنَ الأمَانِي: آرزوؤں سے زیادہ فریب دہ۔

❁ أغَرُّ مِنْ ظَبْيٍ مُقْمِرٍ: چاندنی میں پھرنے والے ہرن سے زیادہ فریب خوردہ۔ (کیونکہ چاندنی رات میں ہرن چندھیا جاتا ہے اور جلد شکار ہو جاتا ہے)

❁ وَكُلُّ غرِيبٍ لِلْغَرِيبِ نسيب: مسافر مسافر کا قریبی ہوتا ہے۔

❁ مَنْ غَرْبَلَ النَّاسَ نَخَلُوه: جو لوگوں کو چھانے گا لوگ اس کو چھان کر بھوسی نکال دیں گے (یعنی جو لوگوں کو گالیاں دے گا لوگ اس کو اس سے بھی زیادہ گندی گالیاں دیں گے)

❁ غَرْثَانٌ فَارْبُكوا لَهُ: بھوکا ہے اس کے لئے کھانا تیار کرو۔ (غرثان: بھوکا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس سے آپ بات کریں مگر وہ ایسی حالت میں ہو جو تمہاری طرف سے توجہ ہٹا دے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص سفر سے آیا تو بھوکا تھا۔ اسے اس کے گھر لڑکا پیدا ہونے کی مبارکباد دی گئی۔ اس پر اس نے کہا: اس کا کیا کروں، اسے کھاؤں یا پیوؤں؟ یہ سن کر اس کی بیوی بولی: بھوکا ہے اس کے لئے کھانا تیار کرو۔ رَبَكَ: مرکب کرنا، گوندھنا۔ رَبِيكَة: کھانے کی ایک قسم۔ اس شخص

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نے کھانا کھانے کے بعد پوچھا طلا اور اس کی ماں کا کیا حال ہے؟ طلا ہرن کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس نے استعارۃ اپنے بچے کو کہا تھا)

❁ أَوَّلُ الغَزْوِ أَخْرَق: پہلا حملہ غیر معمولی ہوتا ہے (تجربات کی کمی کے لئے کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پختگی مشق اور تجربہ سے آتی ہے)

❁ أَغْشَمُ مِنَ السَّيْلِ: سیلاب سے زیادہ ظالم۔

❁ مَنْ غَضِبَ مِنْ لَاشَيْءٍ رَضِيَ مِنْ لَاشَيْءٍ: جو شخص نا قابل ذکر چیز سے غضبناک ہوگا وہ نا قابل ذکر چیز سے راضی بھی ہو جائے گا۔

❁ غَضَبَ الخيلِ عَلَى اللُّجُمِ: گھوڑوں کا غصہ لگاموں پہ ہوتا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بے فائدہ غصہ کرے۔ غضب کا نصب مصدر ہونے کی وجہ سے ہے)

❁ غَلَّ يَدًا مُطْلِقُهَا: ہاتھ کو آزاد کرنے والے نے اس میں بیڑیاں ڈال دیں۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی پر احسان کر کے اسے غلام بنالے)

❁ اذالم تغلب فاخلب: غالب نہ آسکے تو دل موہ لے۔ (غلبہ وتفوق کے ذریعہ اپنی ضرورت حالت حاصل نہ کر سکے تو نرمی اور خوش خلقی سے کام لے)

❁ مَنْ غَالَبَ الأيَّامَ غُلِبَ: جو زمانہ سے لڑے گا مغلوب ہو جائے گا۔

❁ يَغْلِبْنَ الكِرَامَ وَيَغْلِبُهُنَّ اللِّئَامُ: عورتیں تو شریفوں پر غالب آتی ہیں اور کمینے مردان پر غالب ہو جاتے ہیں۔

❁ الغَمَرَاتُ ثُمَّ يَنْجَلِينَ: اب سختیاں ہیں پھر یہ گزر جائیں گی (غمرات: سختیاں: یعنی سختیوں میں صبر و استقامت سے کام لو، عن قریب دور ہو جائیں گی)

❁ غَنِمَ مَنْ سَلِمَ: جو بچ گیا اس نے مال غنیمت حاصل کر لیا۔

❁ أَغْنَى الصَّبَاحُ عَنِ المِصْبَاحِ: صبح نے چراغ سے بے نیاز کر دیا۔

❁ أَغْنَى عن الشيء من الأقْرَعِ عَنِ المُشْطِ: کسی چیز سے اس سے بھی زیادہ بے نیاز جتنا گنجا کنگھی سے۔

❁ وَهَلْ يُغْنِي مِنَ الحدثان لَيْتُ: کیا "کاش" کہنا حوادث سے بے نیاز کر سکتا ہے؟

❁ مَنْ لَمْ يُغْنِهِ مايكفيه أَعْجَزَهُ مَا يُغْنِيهِ: جس شخص کو کافی چیز بھی بے نیاز نہ کر سکے اس کو بے نیاز کر دینے والی چیز عاجز کر دے گی (قناعت کی تعریف کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ غِنَى النَّفْسِ أَفْضَلُ مِنْ غِنَى المَالِ: نفس کی بے نیازی دولت کی بے نیازی سے بڑھ کر ہے۔ (یا نفس کی دولت کمائی کی دولت سے زیادہ قابل ترجیح ہے)

❁ إنَّ الغَنِيَّ طَوِيلُ الذيلِ مَيَّاسٌ: دولت مند دامن دراز اور ناز سے چلنے والا ہوتا ہے۔ (یعنی مالدار اپنی مالداری کو چھپا نہیں سکتا)

❁ مَنْ غَابَ غَابَ نَصِيبُهُ: جو غائب ہوا اس کا حصہ بھی غائب ہوا (اکثر لوگ غیر حاضر کو بھلا کر اس کی جگہ حاضر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بعض

اس کے برخلاف کہتے ہیں۔ أَقْصَى رَفِيقَيْهِ له كَالأَقْرَبِ (اس کے دو رفیقوں میں سے دور ترین اس کے لئے قریب ترین کی طرح ہے)

❁ الغِيبَةُ جُهْدُ العَاجِزِ: پیٹھ پیچھے برائی عاجز کی طاقت ہے۔

❁ كَالمُسْتَغِيثِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بالنار: گرمی کی شدت سے آگ کی مدد کے خواہاں کی طرح (رَمْضَاء سورج کی گرمی کی شدت) ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو معمولی مصیبت سے بچنے کے لئے بڑی مصیبت مول لے)

❁ أَغَيْرَةً وَجُبْنًا: کیا غیرت بھی اور بزدلی بھی (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس میں دو برائیاں اکٹھی ہوں۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص دشمن سے لڑائی سے دور رہا اور اپنی قوم کو لڑتے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو لڑائی دیکھتے ہوئے دیکھ کر مارا پیٹا۔ اس پر بیوی نے کہا: کیا غیرت بھی ہے اور بزدلی بھی۔

❁ غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ: بہت میں سے تھوڑا (غیض: کمی، فیض: بہت یعنی بہت میں سے تھوڑا۔ یہ عربوں کے اس قول کی طرح ہے: بَرْضٌ مِنْ عِدٍّ جس کے معنی بھی بہت میں سے تھوڑا ہے)

❁ عِنْدَ الغَايَةِ يُعْرَفُ السبقُ: انتہا کے وقت سبقت معلوم ہوتی ہے۔ (یعنی سبقت اچھی ابتداء میں نہیں بلکہ اچھی انتہا میں ہوتی ہے)

ف

❁ فَتَلَ في الذُّرْوَةِ والغَارِبِ: اس نے کوہان کے بالائی اور اگلے حصے کو ملا کر بل دے دیا۔ (ذُرْوَة: کوہان یا ہر چیز کا بالائی حصہ۔ غارب: کوہان کا اگلا حصہ: اس کی اصل یہ ہے کہ سرکش اونٹ سے چھپا کر اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے تاکہ وہ مانع نہ ہو، یوں کوہان کے بالائی حصوں کو ملا کر بل دینا کہ اونٹ مانوس ہو جائے اور نکیل ڈال دی جائے۔ خطام: اونٹ کی نکیل۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی کو قابو کرنے تک دھوکا دیتا رہے)

❁ فَتًى ولا كَمَالِكٍ: جوان مگر مالک جیسا نہیں۔ (مالک بن نویرہ بن حمزہ مضر بن نزار کے قبیلے کے ایک شخص کا نام ہے جسے خالد بن ولید نے قتل کیا تھا۔ اس کے بھائی متمم کو جسے اس سے بڑی محبت تھی، عرصہ تک اس پر شدید رنج وغم رہا۔ جب لوگ تعزیت کرتے اور ان جوانوں کا بھی ذکر کرتے جو قتل ہوئے تاکہ اس کی تسلی ہو تو متمم کہا کرتا: ایک جوان تو تھا مگر میرے بھائی مالک جیسا نہیں۔ کسی کی فضیلت اور دوسرے کی اس پر ترجیح کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ أيُّ فَتًى قَتَلَهُ الدخانُ: کون سا جوان ہے جسے دھوئیں نے مار ڈالا تھا۔ (یہ ایک عورت نے ایک جوان پر نوحہ کرتے ہوئے کہا تھا جو دھوئیں سے مر گیا تھا۔ اس پر اس عورت سے کہا گیا اگر وہ جوان داؤ پیچ جاننے والا ہوتا تو دھوئیں سے دور ہو جاتا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو داؤ پیچ نہ جانتا ہو)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ كُلُّ فَتَاةٍ بِأَبِيهَا مُعْجَبَةٌ: ہر دوشیزہ اپنے باپ پر فخر کرتی ہے (کسی شخص کے اپنے لوگوں اور قریب رشتہ داروں پر استعجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ رُبَّ فَرْحَةٍ تَعُودُ تَرْحَةً: بہت سی خوشیاں رنج بن جاتی ہیں۔

❁ لَيْسَ الْفَرَسُ بِجُلِّهِ: گھوڑا اپنے جھول کی وجہ سے نہیں (یعنی گھوڑے کی قیمت اس کے جھول کی وجہ سے نہیں۔

❁ هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ: وہ دونوں ریس کے گھوڑوں کی طرح ہیں (ایسے دو شخصوں کے لئے کہا جاتا ہے جو قابل تعریف کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوں)

❁ مَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُنَالُ: ہر فرصت دوبارہ نہیں ملا کرتی۔ (یعنی موقع بار بار نہیں آتے)

❁ أَفْرَطَ فَأَسْقَطَ: وہ بہت بولا (اس نے مبالغہ آرائی کی) اس لئے لغزش کھائی۔

❁ تَفَرَّقَ الْقَوْمُ أَيْدِيَ سَبَا وَ أَيَادِيَ سَبَا: لوگ پراگندہ ہوگئے اور ایسے پراگندہ ہوئے کہ اس کے بعد ایک جا نہ ہو سکے۔ (کیونکہ اللہ نے اس زمین پر سیلاب بھیجا جس نے اس زمین کو غرق کردیا اس کے باغات اجاڑ دیئے۔ یمن کے اکثر قبائل کے مورث اعلیٰ سبا (یا سبا اور اس کی قوم ترک وطن کر کے وہاں سے چلی گئی اور ملک میں پھیل گئے کوئی کہاں کوئی کہاں۔ چنانچہ ضرب المثل بن گئے۔ بعض کے نزدیک ایدی سبا و ایادی سبا سے مراد سبا کا لشکر ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے نقب زنی کرتا اور حملوں میں اپنی کارروائیوں کے لئے اس سے کام لیا کرتا تھا یہ حال کی وجہ سے منصوب ہے)

❁ مَنْ فَسَدَتْ بِطَانَتُهُ كَانَ كَمَنْ غَصَّ بِالْمَاءِ: جس کے گھر والے ہی بگڑ جائیں وہ اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جسے پانی سے اچھو لگ جائے (بطانۃ الرجل: کسی شخص کے گھر والے یعنی جب گھر والے یہ بگڑ جائیں تو اس کی حالت کے لئے کوئی دوا کام نہیں کرتی کیونکہ جسے کھانے سے اچھو لگ جائے وہ پانی سے رجوع کرتا ہے، لیکن اگر پانی سے ہی اچھو لگ جائے تو اس کے کوئی تدبیر نہیں۔

❁ أَفْسَدُ مِنَ السُّوسِ: گھن سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا۔

❁ أَفْسَدُ مِنَ الْجَرَادِ: ٹڈی سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا۔

❁ أَفْسَدُ مِنْ أَرَضَةٍ: دیمک سے زیدہ فساد پیدا کرنے والا۔

❁ فَسَا بَيْنَهُمُ الظَّرِبَانُ: ظربان نے ان کے درمیان گوز مار دیا۔ (ضربان: کتے کے بلے سے تھوڑا بڑا، بدبودار اور بہت گوز مارنے والا جانور۔ کہتے ہیں کہ وہ گوہ کے بل پر آکر گوز مارے تو گوہ نکل کر اسے کھا جاتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جانور جب اونٹوں کے درمیان گوز مارے تو اونٹ منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور چرواہے کو انہیں واپس لانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہیں زمانہ کے حوادث متفرق اور منتشر کردیں۔

❁ أَفْصَحُ مِنْ سحبان وائل: سحبان وائل سے زیادہ فصیح۔

❁ فَضْلُ الْفِعْلِ على القول مَكْرُمَةٌ: عمل کی قول پر برتری عظیم الشان کام ہے۔ جو کہنے سے زیادہ کر کے دکھائے تو یہ لوگوں کی نگاہ میں عالی ظرفی ہے۔

❁ فَضْلُ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ دَنَائَةٌ: قول کی عمل پر برتری کمینہ پن ہے۔ (یعنی جو شخص اپنے گنوں سے بڑھ کر اپنی تعریف کرے وہ کمینہ ہوتا ہے)

❁ الْفَضْلُ لِلْمُتَدِئِي وإِنْ أَحْسَنَ الْمُقْتَدِي: فضیلت ابتدا کرنے والے کی ہے خواہ پیروی کرنے والا اس سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھائے۔

❁ أَفْضَلُ الْمَعْرُوفِ إِغاثةُ الْمَلْهُوفِ: بہترین نیکی مصیبت زدہ کی امداد کو پہنچنا ہے۔

❁ لا أَفْعَلُ كَذَا مَا أَنَّ السَّمَاءَ سَمَاءٌ و لا أَفْعَلُهُ مَا أَنَّ فِي السَّماءِ نَجمًا: میں ایسا نہیں کروں گا جب تک کہ آسمان آسمان ہے۔ یا میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ آسمان میں کوئی ستارہ ہے (یعنی کبھی نہیں کروں گا)

❁ فَكُنْتُ كَفَاقِئِ عَيْنَيْهِ عَمْدًا: میں اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے اپنی آنکھیں عمداً پھوڑ ڈالی ہوں (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنی جان کو خطرہ میں ڈالے۔ فرزدق نے نوار کو طلاق دی پھر پشیمان ہوا اور کہا:

فكنتُ كفَاقِئِ عَيْنَيْهِ عمدًا

فأصبح لا يضيءُ له النهارُ

(میں عمداً اپنی آنکھیں پھوڑنے والے کی طرح ہو گیا، جس کے لئے دن روشن نہ ہوتا ہو)

❁ خَيْرُ الْفِقْهِ ما حَاضَرْتَ بِهِ: بہترین علم وہ ہے ضرورت کے وقت جواب دے سکے۔

❁ لاتفكّرْ فَلَهَا مُدَبِّرٌ: نہ سوچ، اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔

❁ لا يَفُلُّ الحَدِيدَ إلا الحديدُ: لوہے کو لوہا ہی توڑتا ہے۔

❁ فَمٌ يُسَبِّحُ وَيَدٌ تَذْبَحُ: منہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور ہاتھ قتل کر رہا ہے۔ (بغل میں چھری منہ میں رام رام)

❁ فِي فَمِي ماءٌ وهل ينطق من في فِيْهِ ماءٌ: میرے منہ میں پانی ہے اور کیا وہ شخص بولتا ہے جس کے منہ میں پانی ہو؟

❁ يَفْنَى مَا فِي الْقُدُورِ وَيَبْقَى مَا فِي الصُّدُورِ: جو ہانڈیوں میں ہو وہ فنا ہو جاتا ہے او جو سینوں میں ہو وہ باقی رہتا ہے۔

❁ لَمْ يَفُتْ مَنْ لَمْ يَمُتْ: جو مرا نہیں وہ فوت نہیں ہوا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس سے جلد بدلہ لینے کا موقع نہ ملے اور مستقبل میں اس سے بدلہ لینے کی امید ہو)

❁ الفَائِتُ لا يُسْتَدْرَكُ: فوت شدہ پھر نہیں مل سکتا (یعنی جو گیا سو گیا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اس معنی میں ایک شعر ہے:

فَأَصبحتُ لا أَستَطِيعُ رَدًّا لِمَا مَضَى
كَمَا لا يُرَدُّ الدَّرُّ فِي الضرعِ حالِبُهُ

گزرے ہوئے کو لوٹانا میرے بس میں نہیں جیسے دودھ دوہنے والا دوہے ہوئے دودھ کو تھنوں میں نہیں لوٹا سکتا۔

❁ **أَفْوَتُ من أَمْسِ**: گزشتہ کل سے زیادہ فوت شدہ۔

❁ **مُفَوِّزٌ عَلَّقَ شَنًّا بَالِيًا**: بیابان طے کرنے والے نے بوسیدہ مشکیزہ لٹکا دیا ہے۔ (فَوَّزَ الرجُلُ کا معنی ہے مرد کا بیابان طے کرنے کے لئے چلنا۔ شَنّ: مشکیزہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ساز و سامان کے بغیر بڑے بڑے کام کرنے کا آغاز کرے)

❁ **أَفِقْ قَبلَ أن يُحفَرَ ثَرَاكَ**: اس سے پہلے کہ تیری قبر کھودی جائے، ہوش میں آجا (یعنی اس سے پہلے کہ تیری رسوائیاں تجھے پریشان کرنے لگیں، انہیں مدفون رکھنے کا انتظام کرلے۔

❁ **أَفْوَاهُهَا مَجَاسُّهَا**: ان کے منہ ان کے چھونے کے آلات ہیں (اس معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن کو ظاہر کردے۔ اونٹ جب خوب کھا چکتے ہیں تو ان کی صحت معلوم کرنے اور چھونے کے بارے میں ان کی صلاحیت پر اکتفاء کرلیا جاتا ہے)۔

ق

❁ **قُبَّةُ نَجرَان**: نجران کا گنبد (ایک عظیم گنبد تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہزار مردوں پر سایہ کرتا تھا وہاں پناہ لینے والے کو پناہ ملتی تھی خوف زدہ کو امن، بھوکے کو شکم سیر کھانا اور حاجتمند کی حاجت پوری ہوتی تھی، اور ان سب باتوں میں ضرب المثل تھا۔ نجران شہر میں یہ گنبد ایک دریا کے کنارے واقع تھا۔ عرب اسے نجران کا کعبہ بھی کہتے تھے اور کعبہ کی طرح اس کی زیارت کو آیا کرتے تھے:

❁ **كَالْقَابِسِ العَجْلَانِ**: جلد باز آگ لینے والے کی طرح (قبس کا معنی آگ لینا ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے میں جلدی کرے)۔

❁ **كَالْقَابِضِ عَلَى المَاءِ**: (پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے کی طرح (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسی چیز طلب کرے جو حاصل نہ ہوسکے)

❁ **إِنَّهُ لَقُبَضَةٌ رُفَضَةٌ**: وہ تو (کسی چیز کو) جلدی پکڑنے اور جلدی چھوڑ دینے والا ہے اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لے اور پھر اسے چھوڑنے اور مسترد کرنے میں دیر نہ لگائے)

❁ **قَتَلَتْ أَرضٌ جَاهِلَهَا**: زمین نے اپنے سے بے خبر کو مار ڈالا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسے کام کو ہاتھ میں لے جس کا اسے کچھ پتہ نہ ہو)

❁ **القَتلُ أَنفَى لِلقَتلِ**: قتل قتل کو روکنے والا بھی ہوتا ہے۔ (یہ عرب کے اس قوس جیسا ہے: قتلُ البعضِ إحياءٌ لِلْجَمِيعِ (کسی کے قتل سے سب کو زندگی بھی ملتی ہے یا اس قرآنی آیت جیسا ہے، **ولَكُم فِي القصاصِ حياةٌ** (اور تمہارے لئے بدلہ میں زندگی ہے)

❁ **مَقتَلُ الرجُلِ بَينَ فَكَّيهِ**: آدمی کی قتل گاہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے (یعنی بعض اوقات ایسی باتیں کرنا جو نہیں کرنی چاہئیں قتل کا باعث بن جاتی ہیں)۔

❁ **قُدَّتْ سُيُورُهُ مِنْ أَدِيمِكَ**: اس کے تسمے تیری کھال سے کاٹے گئے ہیں (ایسی دو چیزوں کے لئے کہا جاتا ہے جو ایک جیسی ہوں)

❁ **مَنْ يَقدِرُ عَلَى رَدِّ أَمسِ او تَطيِينِ عَينِ الشَّمسِ**: کون ہے جو کل کو لوٹا سکے یا چشمہ آفتاب پر مٹی کا لیپ کرسکے؟

❁ **إِنَّ المَقدُرَةَ تُذهِبُ الحَفِيظَةَ**: صلاحیت غضب کو زائل کردیتی ہے۔ (حفيظة: غضب، قریش کے ایک بڑے شخص کو اپنے دشمن کی تلاش تھی، جب اس نے دشمن پر غلبہ پالیا تو اس نے کہا: اگر صلاحیت سے غضب کو زائل کرنا ممکن نہ ہوتا تو میں تجھ سے انتقام لیتا۔ یہ کہہ کر اس نے دشمن کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اس قریشی کا یہ قول ضرب المثل بن گیا۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کی صلاحیت غضب کو زائل کردیتی ہے)

❁ **إِذَا قَدُمَ الإِخَاءُ سَمُجَ الثَّنَاءُ**: جب بھائی چارہ پرانا ہوجاتا ہے تو تعریف نفرت انگیز ہوجاتی ہے۔

❁ **يُقَدِّمُ رِجلًا وَيُؤَخِّرُ أُخرَى**: وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا پیچھے ہٹاتا ہے (اپنے معاملات میں تردد کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ **لَيسَ القَوَادِمُ كَالخَوَافِي**: بازوؤں کے بڑے پر چھوٹے پروں کی طرح نہیں ہوتے۔ (قَوَادِم یا قُدَامَى: بازوؤں کے اگلے حصے کے پر، خَوَافِي: بازو کے چھوٹے پر۔ لوگوں میں [illegible] کی وجہ سے ان میں سے کچھ کی دوسروں پر ترجیح کے بارے میں [illegible]

❁ **لِكُلِّ قَدِيمٍ حُرمَةٌ**: ہر پرانی چیز کی [illegible] (حرمة: حرمت، قدر و منزلت یا واجب الادا حقوق یا [illegible]

❁ **لَيسَ لِمَا قَرَّتْ بِهِ العَينُ ثَمَنٌ**: جس چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں۔

❁ **أَقرَبُ مِنْ حَبلِ الوَرِيدِ**: شہ رگ سے زیادہ قریب (وريد يا حبل الوريد: گردن کی شہ رگ)

❁ **لاقُربَةَ لِحُسنِ الخُلُقِ**: خوش خلقی سے بہتر کوئی تقرب کا ذریعہ نہیں۔ (قربة: اللہ تعالیٰ یا لوگوں سے قریب ہونے کا ذریعہ)

❁ **إِذَا قَرِحَ الجَنَانُ بَكَتِ العَينَانِ**: دل زخمی ہو تو آنکھیں روتی ہیں (یہ [illegible] قول کے مفہوم کے قریب ہے: **البُغضُ تُبدِيهِ لَكَ العَينَانِ** (آنکھیں بغض تجھ پر ظاہر کردیتی ہیں)

❁ **إِذَا مَا القَارِظُ العَنَزِيُّ آبَ**: جب [illegible] درخت کے پتے چننے والا

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

واپس آجائے۔(بیان کیا جاتا ہے کہ عنزی رھم بن عامر سلم درخت کے پتے تلاش کرنے کیلئے نکلا پھر واپس نہ آیا اور اس کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی۔اس طرح طویل غیر حاضری کے بارے میں ضرب المثل بن گئی نیز ایسے غائب ہونے کے لئے بھی کہا جاتا ہے جس کی واپسی کی امید نہ ہو۔یہ شعر کا دوسرا مصرع ہے پہلا مصرع یوں ہے: فَرَجّي الخيرَ وانتَظِري أيابي (تو خیر کی امید رکھ اور میری واپسی کا انتظار کر)

❁ فُلانٌ لاتُقرَعُ لَهُ العَصَا: فلاں کے لئے عصا نہیں۔کھٹکھٹایا جاتا (عامر بن ظرب عدوانی کی بڑھاپے میں عقل کمزور ہوگئی تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جب فیصلہ کرتے ہوئے تو میری عقل کی کسی چیز کو نہ مانے تو عصا سے ڈھال کو کھٹکھٹا دیا کرنا تا کہ میں محتاط ہو جایا کروں۔چنانچہ بیٹی ایسا ہی کیا کرتی تھی، دانا، تجربہ کار اور جہاندیدہ شخص کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ قَرِينُكَ سَهمُكَ يُخطِئُ ويُصِيبُ: تیرا ساتھی تیرا تیر ہے جو کبھی خطا کرتا اور کبھی نشانہ پر لگ جاتا ہے (دوستوں کی غلطیوں سے چشم پوشی کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أقسَى مِن صَخرٍ: چٹان سے زیادہ سنگدل

❁ قَشَرتُ لَهُ العَصَا: میں نے اس کے لئے عصا چھیلا۔(اطلاع دینے کے وقت کہا جاتا ہے)

❁ أقصَرَ لَمَّا أبصَرَ: جب اس نے دیکھا تو باز آ گیا (یعنی برے انجام کو دیکھ کر کسی چیز سے احتراز کیا۔گناہ سے علیحدگی اختیار کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔اقصار کا معنی کسی چیز سے رک جانا جس کو وہ کر سکتا ہو ہے)

❁ ما أقصَرَ الليل على الراقد: سونے والے پر رات کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔

❁ كُلُّ مُقتَصَرٍ عَلَيهِ كَافٍ: ہر چیز جس پر اکتفاء کر لیا جائے کافی ہوتی ہے۔

❁ لِكُلِّ قَضَاءٍ جَالِبٌ وَلِكُلِّ دَرٍّ حَالِبٌ: ہر حکم کا کوئی نہ کوئی لے آنے والے ہوتا ہے اور ہر دودھ کا کوئی دوہنے والا۔

❁ قَطَعَتْ جَهِيزَةُ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ: جہیزہ نے ہر مقرر کی بات کاٹ دی۔(اس کی اصل یہ ہے کہ دو قبیلوں کے مابین صلح کے بارے میں لوگ اکٹھے ہو کر تقریریں کر رہے تھے۔ایک قبیلہ کے ایک شخص نے دوسرے قبیلہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور درخواست کر رہے تھے کہ مقتول کے گھر والے خون بہا پر راضی ہو جائیں۔اس موقع پر جہیزہ نامی لونڈی نے آ کر بتایا کہ مقتول کے وارثوں میں سے کسی نے قاتل پر قابو پا کر اسے قتل کر دیا ہے۔اس وقت لوگوں نے یہ بات کہی تھی۔ یعنی قطعت جهيزه قول كل خطيب۔ اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ اب گفتگو کی گنجائش نہیں رہی)

❁ إذا قَطَعْنَا عَلَمًا بَدَا عَلَمٌ: جب ہم ایک پہاڑ کو طے کرتے ہیں تو ایک اور پہاڑ نمودار ہو جاتا ہے۔(یہاں عَلَم سے پہاڑ مراد ہے۔یعنی جب ہم کسی تھکا دینے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس جیسا ایک اور کام پیش آ جاتا ہے)

❁ تُقَطِّعُ أعنَاقَ الرِّجَالِ المَطَامِعُ: طمعین مردوں کی گردنیں کاٹ دیتی ہیں (لالچ اور حرص کی مذمت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ مَن قَلَّ ذَلَّ وَمَن اُمِرَ فَلَّ: جو شخص کم ہوا ذلیل ہو گیا اور جو حاکم ہوا اس نے توڑ ڈالا (مراد جس کے مددگار کم ہوں وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور جس کے مددگار زیادہ ہوں وہ اپنے دشمنوں کی تلواریں کند کر دیتا ہے اور توڑ ڈالتا ہے)

❁ لا قَلِيلٌ من العَدَاوَةِ وَالإحَنِ والمَرَضِ: تھوڑی سی دشمنی گہرا کینہ اور بیماری بھی کم نہیں۔

❁ قَلَبَ لَهُ ظَهرَ المِجَنِّ: اس نے اسے ڈھال کی پشت دکھائی (یعنی وہ اس کا مخالف ہو گیا۔مِجَنّ: ڈھال اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی سے محبت کرتا ہو اس کا خیال رکھتا ہو پھر اس کا ساتھ چھوڑ دے)

❁ القَلبُ مِصحَفُ البَصَرِ: دل بینائی کی کتاب ہے۔

❁ مِنَ القَلبِ إلَى القَلبِ: دل سے دل کی طرف (دل سے دل کو راہ ہے)

❁ فِي بَعضِ القُلُوبِ عُيُونٌ: بعض دلوں میں آنکھیں ہوتی ہیں)

❁ القُلُوبُ تَجَازِي القُلُوبَ: دل ہی دلوں کو بدلہ دیتے ہیں۔

❁ اِقلَع شَوكَكَ بِيَدِكَ: اپنا کانٹا اپنے ہاتھ سے نکال۔

❁ فِي القَمَرِ ضِيَاءٌ والشَّمسُ أضوَأُ منه: چاند میں روشنی ہے، لیکن سورج چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔(کسی چیز کو اس جیسی پر ترجیح کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ لا يُقتَنى مِن كَلبٍ سُوءٍ جَروًا: برے کتے سے پلا حاصل نہ کر۔

❁ كُلُّ قَائِبٍ مِن قُوبَةٍ: ہر چوزہ انڈے سے نکلتا ہے۔(قائب: چوزہ، قوبة: انڈا۔(یعنی ہر شاخ اپنی اصل سے ہی ظاہر ہوتی ہے)

❁ مَن قَالَ مالا ينبغي سَمِعَ مَالا يَشتَهِي: جو شخص نامناسب بات کہے گا وہ نامرغوب باتیں سنے گا۔

❁ لَو قُلتُ تَمرَةً لَقَالَ جَمرَةً: اگر میں کھجور کہوں تو وہ انگارہ کہے گا (خواہشات کے اختلاف پر کہا جاتا ہے)

❁ قَد قِيلَ ذَلِكَ إن حَقًّا وإن كَذِبًا: یہ بات تو کہی جا چکی، سچ ہو یا جھوٹ۔

❁ إذا قَالَت حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا

فَإنَّ القَولَ مَاقَالَت حَذَامِ

(جب حذام کوئی بات کہے تو اسے سچا سمجھو، کیونکہ قول وہی درست ہے جو حذام نے کہا ہر مصرع کسی شخص کے اپنے ساتھی کو سچا سمجھنے کے بارے میں ہے)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

❁ اَلقولُ یَنْفُذُ مالا تنفذُ الإبَرُ: بات اس سے بھی گزر جاتی ہے جس سے سوئی نہیں گزر سکتی۔

❁ مَا کُلُّ قَوْلٍ لَهٗ جَوَاب: ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔

❁ رُبَّ قَولٍ اَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ: بہت سی باتیں حملہ سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ (ایسی بات کے وقت کہا جاتا ہے جو اس شخص پر اثر انداز ہو جس سے اس کا سامنا کرایا جائے۔ صول: جھگڑے اور جنگ کے وقت حملہ)

❁ وَبَعْضُ الْقَوْلِ یَذْهَبُ فِی الرِّیاح: بعض باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔

❁ إذا قَامَ بِكَ الشَّرُّ فَاقْعُدْ: جب شر تجھے کھڑا کرے تو بیٹھ جا، کر۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے بردباری کا اور برائی کی طرف جلدی بڑھنا ترک کرنے کا حکم دیا جائے)

❁ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ: ہر جگہ کے لئے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوتی ہے (ہر معاملہ، عمل یا گفتگو کے لئے ایک جگہ ہوتی ہے وہ اسی موقع پر ہونا چاہئے۔

❁ هَلْ یَسْتَقِیمُ الظِّلُّ وَالعُودُ أَعْوَجُ: کیا سایہ سیدھا رہ سکتا ہے جبکہ لکڑی ٹیڑھی ہو؟

❁ قِیمَةُ كُلِّ امْرِیءٍ مَا یُحسِنُهُ: ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے اچھا بنائے۔

ک

❁ أَكْبَرُ مِنْ لُبَد: لبد سے زیادہ عمر والا (بعد لقمان بن عاد کی مبینہ طور پر منتخب کی ہوئی سات گدھوں میں سے ایک کا نام جو ایک طویل مدت تک زندہ رہا)

❁ أَكْتَمُ مِنَ الأَرضِ: زمین سے زیادہ چھپانے والا۔

❁ مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ: جو زیادہ بولے گا بکواس ہی کرے گا۔ (إهجار، بیہودہ باتیں کرنا، ہذیاں بکنا إکثار: گفتگو میں سوچ بچار اور اعتدال کی حدود سے تجاوز کرنا)

❁ تُكْثِرُ الحزَّ وتُخطِئُ المَفْصِلَ: تو بہت کاٹتا ہے مگر جوڑ کو نہیں پکڑ سکتا۔ (حزّ: کاٹنا، مَفْصِل مَفَاصِل کا واحد بمعنی جوڑ۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بڑی کوشش کر کے بھی مراد حاصل نہ کر سکے)

❁ مِنْ كَثْرَةِ الْمَلاَّحِینَ غَرِقَتِ السَّفِینَةُ: ملاحوں کی کثرت سے جہاز ڈوب گیا۔

❁ إذَا كَانَ لَكَ أَكْثَرِی فَتَجَافَ لِی عَنْ أَیْسَرِی: جب میرا بہت تمہارے لئے ہی ہو تو میری خاطر میرے تھوڑے سے دور رہو۔ (یعنی جس دوست کی بہت سی باتوں پر تو اس کی تعریف کرتا ہے اس کی چند برائیوں کو برداشت کر)

❁ المِكْثَارُ كَحَاطِبِ لَیْلٍ: زیادہ بولنے والا رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ (اس شخص کے لئے [illegible]

بات کہہ دے جو اس کے دل میں آئے یوں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے کی طرح ہوگا۔ اس کو رات کی لکڑیاں جمع کرنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے۔ بے خبری میں کوئی سانپ اسے ڈس لے یا کوئی بچھو ڈنک مار دے)

❁ إكْدَحْ لِی أَكْدَحْ لَكَ: تو میرے لئے کوشش کر میں تیرے لئے کوشش کروں گا (کدح: کدوکاوش کرنا)

❁ أَكْذِبِ النَّفسَ إذَا حَدَّثْتَهَا: جب تو اپنے دل سے باتیں کرے تو اس سے جھوٹ بول (جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو دل کو جسارت پر آمادہ کرتے ہوئے اسے کامیابی اور امیدیں برآنے کی باتیں کر، ناکامی کی بات نہ کر ورنہ اسے مایوس کر دے گا، جسارت پر اکسانے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ الْكَذِبُ دَاءٌ وَالصِّدْقُ شِفَاءٌ: جھوٹ بیماری اور سچ شفاء ہے۔

❁ إنْ كَذِبٌ نَجَّى فَصِدْقٌ أَخْلَقُ: اگر جھوٹ نے نجات دی تو سچ بدرجہ اولیٰ نجات دینے والا ہے (گمشدہ حصہ کا نحوی معنی اس طرح ہے: إنْ نَجّیٰ كَذِبٌ فالصدق أجْدَر و أولی بالتنجیة)

❁ أكذب مِنْ یلمع وهو السراب: سراب سے زیادہ جھوٹا۔

❁ أَكْذَبُ أُحْلُوثَةً مِنْ أَسِیرٍ: قیدی سے زیادہ جھوٹ روایت کرنے والا۔

❁ أَكْذَبُ مِنَ الأَخِیذِ: قیدی سے زیادہ جھوٹا (جو نجات پانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے)

❁ أَكْذَبُ مَنْ دَبَّ وَدَرَجَ: زندوں اور مردوں میں سب سے زیادہ جھوٹا (دَرَجَ القومُ: ناپید ہو جانا، فنا ہو جانا۔ من دب و درج: زندہ اور مردہ لوگ)

❁ إنْ كُنْتَ كَذُوبًا فكُنْ ذَكُورًا: اگر تو جھوٹا ہے تو یاد رکھنے والا بن (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو جھوٹ [illegible] بھول جاتا ہو اور الٹ کہہ دیتا ہو)

❁ كَانَ كُرَاعًا فَصَارَ ذِرَاعًا: وہ [illegible] تھا [illegible] گیا۔ (کُراع: پاؤں، ٹخنوں سے نیچے کا حصہ (کمزور اور ذلیل شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو قوی اور معزز بن جائے۔

❁ حتام تكْرَعُ ولا تنقعُ: تو کب تک منہ ڈال [illegible] پانی پیتا رہے گا اور [illegible] نہ ہوگا؟ (کَرَعَ الماءَ منہ ڈال کر پانی پینا۔ نقع: [illegible] ہونا (جمع کرنے کے حریص کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ مَنْ كَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ هانت عَلَیْهِ شَهْوَتُهُ: جس شخص کو اپنا نفس عزیز ہوگا اس [illegible] شہوت حقیر معلوم ہوں۔

❁ إسْتَكْرَمْتَ فَارْتَبِطْ: تو نے شریف الاصل گھوڑا پایا ہے۔ لہٰذا اسے باندھ (اچھی چیز کی حفاظت کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ أَكْرَمُ مِنْ حاتِمِ طَیِّئٍ: حاتم طائی سے زیادہ سخی۔

❁ [illegible] عَلَی الضَّیْمِ [illegible] شریف آدمی کو ظلم پر مائل کیا [illegible]

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

جائے تو وہ دور ہوجاتا ہے۔

❁ مُكْرَهٌ أَخُوكَ لاَبَطَل: تیرا بھائی مجبور کیا گیا ہے بہادر نہیں (یعنی وہ اس بات پر اکسایا گیا بہادری طبعی نہیں۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے ایسی کام پر اکسایا جائے جو اس کی عادت کے خلاف ہو)

❁ أَكْسَبُ مِنْ نَمْلٍ: چیونٹی سے زیادہ کمانے والا (کیونکہ چیونٹی ہر وقت ذخیرہ کرنے کی دھن میں لگی رہتی ہے کوئی اور جانور ایسا نہیں)

❁ أَكْسَبُ مِن ذِئبٍ: بھیڑیے سے زیادہ طلب کرنے والا (کیونکہ وہ ہمیشہ شکار کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ سوتا ہے)

❁ أَكْسَفًا وإمْسَاكًا: کیا تیوری چڑھانا اور بخل دونوں (كسف الوجه: تیوری چڑھانا۔ امساك المال: بخل، کنجوسی تیوری چڑھانے والے بخیل کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ أَكْسَى مِنْ بَصَلَة: پیاز سے زیادہ لباس پہنے والا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بہت سے لباس پہنے ہوئے ہو۔ پیاز کی مثال اس لئے دی جاتی ہے کہ اس کے چھلکے ایک دوسرے پر تہہ بتہہ ہوتے ہیں)

❁ كَعْبَةُ نَجْرَان: نجران کا کعبہ۔ نجران یمن کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کعبہ کا حج کیا جاتا تھا، جو برباد ہوگیا۔ ملک کی بربادی اور زوال کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ كَالكَعْبَةِ تَزَارُ وَلا تَزُور: جس کی زیارت کعبہ کی طرح کی جاتی ہو وہ کسی کی زیارت کو نہیں جایا کرتا۔

❁ هٰذا الكَعْكُ مِنْ ذَاكَ العَجِيْن: یہ کیک اسی آٹے کا بنا ہوا ہے۔

❁ الْكُفْر مَخْبَثَةٌ لِنَفْسِ المُنْعِم: کفران نعمت منعم کے نفس کو خراب کرنے کا باعث ہے۔ (كفر کفران نعمت، مَخْبَثَة: خراب کرنے کا باعث، یعنی ناشکری محسن کے دل کو اس شخص کیلئے خراب کر دیتی ہے جس پر احسان کیا گیا ہو)

❁ الكَفَالَةُ نَدَامَةٌ: ضمانت پشیمانی کا موجب ہے۔

❁ كَفَى المَرْءَ فَضْلاً أن تُعَدَّ مَعَايِبُهُ: آدمی کی برتری کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے عیوب شمار کئے جائیں۔

❁ يَكْفِيكَ مِمَّا لاتَرى مَاقَدْ تَرَى: تیرے لئے دیکھی ہوئی چیزیں ان دیکھی چیزوں کی بہ نسبت کافی ہیں۔ (دیکھی ہوئی چیزوں سے سبق حاصل کرنا اور ان دیکھی چیزوں کو نہ آزمانے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ مَنْ كَانَ لَكَ كُلُّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَلُّهُ: جو شخص پورا تمہارے لئے ہے اس کا پورا بوجھ تم پر ہے۔ (كَلّ: بوجھ)

❁ وَالْكَلُّ مَحْمُولٌ عَلى ذِي الفَضْلِ: بوجھ اہل کرم پر ڈالا جاتا ہے۔

❁ كُلُّ كَلْبٍ بِبَابِهِ نَبَّاحٌ: ہر کتا اپنے دروازہ پر بھونکنے والا ہے۔

❁ اَلْكَلْبُ كَلْبٌ وَلَو طَوَّقتهُ ذَهَبًا: کتا کتا ہی رہے گا خواہ تو اس کے گلے میں سونے کا طوق ڈال دے۔

❁ كَلْبٌ عَسَّ خَيْرٌ مِنْ أَسَدٍ رَبَضَ: گھومنے اور تلاش کرنے والا کتا آرام گاہ میں بیٹھے ہوئے شیر سے بہتر ہے۔ (عسّ: تلاش کرنا، طواف کرنا یعنی گھومنا)

❁ كَلَّفْتَنِي مُخَّ البَعُوضِ: تو نے مجھے مچھر کا مغز لانے کا کام سونپا ہے (ایسے شخص کیلئے کہا جاتا ہے جسے بھاری یا ناممکن کام سپرد کیا جائے۔)

❁ كَلَّفْتُ إلَيْكَ عَرَقَ القِرْبَة: میں نے تیری طرف آنے میں مشکیزہ کے پسینہ کی تکلیف اٹھائی۔ (دراصل کہا گیا ہے: كلفت نفسي في الوصول اليك عرق القربة یعنی اتنی تکلیف اٹھائی جتنی مشکیزہ اٹھانے میں ہوتی ہے)

❁ لَيْسَ مَعَ التَّكَلُّفِ تَظَرُّفٌ: تکلف کے ساتھ ظرافت نہیں ہوتی۔

❁ كَلامُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهارُ: دن رات کی بات کو مٹا دیتا ہے۔

❁ كَلامٌ كَالعَسَلِ وَفِعْلٌ كَالأَسَلِ: کلام شہد جیسا اور کام نیزہ جیسا (قول و فعل کے تضاد کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ كَلامٌ لَيِّنٌ وظُلْمٌ بَيِّنٌ: گفتگو نرم اور ظلم کھلم کھلا)

❁ كَلامُهُ رِيحٌ فِي قَفَصٍ: اس کا کلام پنجرہ میں ہوا کی طرح ہے۔

❁ لِكُلِّ كَلامٍ جَوَابٌ: ہر کلام کا جواب ہوتا ہے۔

❁ رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً: بہت سے کلمات نعمت سلب کر دیتے ہیں۔

❁ لَوْ كُوِيتُ على داءٍ لم اكرهْ: اگر مجھے بیماری کی بنا پر داغ دیا جاتا تو میں ناگوار نہ سمجھتا (یعنی اگر مجھے کسی جرم پر سزا دی جاتی تو میں برا نہ مانتا)

❁ الْكَيْسُ نِصْفُ العَيْشِ: دانائی نصف روزی ہے۔

ل

❁ تَلَبَّدِي تَصِيدِي: زمین سے چمٹ جا شکار کر لے گا۔ (تَلَبَّدْ: شکار کو دھوکا دینے کے لئے زمین سے چمٹ جانا۔ اس مثل کا معنی ہے عیاری سے کام لے طاقت ور اور کامیاب ہوجائے گا)

❁ لَبِسَ لَهُ جِلْدَ النَّمِرِ: اس کے لئے چیتے کی کھال اوڑھ لی (دشمنی ظاہر کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ بَعْدَ اللَّتَيَّا وَالَّتِيِّ: بعد از خرابی بسیار (طویل بحثوں کے بعد، اللتیا والّتِی: چھوٹی بڑی مصیبت۔ اس کی اصل یہ بتائی جاتی ہے کہ جدیس کے ایک شخص نے ایک پستہ عورت سے شادی کی جس سے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں جسے وہ برے لفظوں میں بیان کیا کرتا تھا پھر ایک دراز قد عورت سے نکاح کیا جس سے پہلی بیوی سے بھی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں چنانچہ اسے طلاق دیدی اور کہا بعد از خرابی بسیار میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔

❁ وَمِنَ اللَّجَاجَةِ مايَضُرُّ وَيَنْفَعُ: بعض مباحثہ جو یاں مضر بھی ہوتی ہیں اور فائدہ رساں بھی۔

❁ اللَّحْظُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِن اللفظ: نگاہ الفاظ کی بہ نسبت زیادہ سچی خبر دیتی ہے (یعنی محبت اور نفرت کا اثر آنکھوں میں ظاہر ہوجاتا ہے لہٰذا زبانی کلام پر بھروسہ نہیں کیا جاتا)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

❁ لَأُلحِقَنَّ حَوَاقِنَهُ بِذَوَاقِنِهِ: میں اس کے معدہ کو ٹھوڑی سے ملادوں گا۔(حَوَاقِن: پیٹ میں کھانا روکنے کے اعضاء، ذَوَاقِن: ٹھوڑی اور اس کا نچلا حصہ۔ دھمکی اور دھمکانے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ إذَا تَلاحَتِ الخُصُومُ تَسَافَهَتِ الحُلُومُ: جب دشمن وشنام طرازی پر اتر آتے ہیں تو برداشتیں بے وقوف بن جاتی ہیں (تلاحی: لعنت ملامت کرنا۔ یعنی اس وقت بردبار شخص بھی بے وقوف بن جاتا ہے)

❁ مَنْ لاحَاكَ فَقَدْ عَادَاكَ: جس نے تجھے برا بھلا کہا اس نے تجھ سے دشمنی کی (مُلاحَاة: ایک دوسرے کو ملامت کرنا برا بھلا کہنا)

❁ تَلْدَغُ العَقْرَبُ وتَصِيءُ: بچھو ڈنک بھی مارتا ہے اور چیختا بھی ہے (صَاءَ الفأرُ والعقربُ والخنزيرُ ومَا شَابَهَهَا: چوہے، بچھو، خنزیر اور ان جیسے جانوروں کا چیخنا، آواز نکالنا، اس ظالم کے لئے کہا جاتا ہے جو شکایت بھی کرے)

❁ أَلَذُّ مِنَ الغَنِيمَةِ البَارِدَةِ: آسان شکار سے بھی زیادہ لذیذ (غنیمت باردہ: وہ غنیمت جس کے حصول میں مشقت نہ کرنی پڑے)

❁ أَلَذُّ مِنَ المُنَى: آرزوؤں سے زیادہ لذیذ۔

❁ أَلْزَمُ لِلْمَرْءِ مِنْ ظِلِّهِ: سایہ سے بھی زیادہ آدمی کے ساتھ لگا رہنے والا۔ (کیونکہ سایہ جس کا ہو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے)

❁ أَلْزَمُ مِنَ اليمين لِلشِّمَال: بائیں کے دائیں سے بھی زیادہ ساتھ رہنے والا۔

❁ أَلْزَمُ مِنْ زِرٍّ لِعُرْوَةٍ: بٹن کے کاج کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ ساتھ رہنے والا۔

❁ لِسَانُ الحَالِ أَبْيَنُ من لِسَانِ المَقَالِ: لسان حال زبان قال سے زیادہ واضح ہے۔

❁ لِسَانٌ مِن رُطَبٍ وَيَدٌ مِنْ خَشَبٍ: زبان تر کھجور اور ہاتھ لکڑی کا ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خوبصورت باتیں کرے مگر بے فیض ہو)

❁ لِسَانُ المَرْءِ مِنْ خَدَمِ الفُؤَادِ: آدمی کی زبان دل کے خادموں میں سے ہے۔

❁ اللِّسَانُ مَرْكَبٌ ذَلُولٌ: زبان سدھائی ہوئی سواری ہے (یعنی انسان اچھی اور بری باتیں کرسکتا ہے لہٰذا وہ اپنی زبان کو بری باتوں کا عادی نہیں بناتا)

❁ اللُّقَمُ تُورِثُ النِّقَمَ: لقمے انتقام، بغض کینہ وغیرہ کا باعث ہوتے ہیں (رشوت لینے کی مذمت کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی اگر رشوت دینے والے کی مراد پوری نہ ہو تو رشوت کے لقمے اللہ تعالیٰ اور رشوت دینے والے کی طرف سے عذاب اور سزا اور بدلہ کا باعث بنتے ہیں)

❁ لَوْ أَلْقَمْتَهُ عَسَلاً لَعَضَّ إصْبَعِي: اگر تو اسے شہد کھلائے تو وہ میری انگلی پر دانت گاڑ دے گا۔

❁ كَأَنَّمَا أَلْقَمَهُ الحَجَرَ: گویا اس نے اسے پتھر نگلوا دیا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بولے تو اسے مسکت جواب ملے)

❁ لَقِيتُ مِنهُ عَرَقَ القِرْبَةِ: میں نے اس سے مشک کا پسینہ برداشت کیا (یعنی اس سے سختی اور محنت برداشت کی جس طرح مشک اٹھانے والے کو سختی اٹھانی پڑے تو اسے پسینہ آجاتا ہے۔

❁ مَايَلْقَى الشَجِيُّ مِنَ الخَلِيِّ: غمگین بےغم سے کیا پائے گا۔ (شجی: غمگین، خلی: بےغم، جسے غمگین کرنے والی مصیبت سے نہ آزمایا گیا ہو)

❁ أَلْقِ حَبْلَهُ عَلَى غَارِبِهِ: اس کی رسی اس کے کوہان پر ڈال دو (یعنی اسے کھلا چھوڑ دے، جہاں چاہے جائے جو چاہے کرے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ جب عرب اونٹنی کو چرانے کے لئے بھیجنے کا ارادہ کرتے تو اس کی رسی اس کے کندھے پر ڈال دیتے اور رسی کو نیچے گرا ہوا نہ رہنے دیتے تاکہ وہ اونٹنی کے چرنے میں رکاوٹ نہ بنے، معنی ہے اسے جانے دے جہاں چاہے جائے یا جو چاہے کرے)

❁ أَلْقِ فِي الدِلاءِ دَلْوَكَ: ڈولوں میں تم بھی اپنا ڈول ڈال دو (مال کمانے کی ترغیب اور طلب رزق میں بے اعتنائی ترک کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أنَّى يَلْتَقِي سُهَيْلٌ والسُهَى: سہیل اور سہا کہاں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ (سہیل: قطب جنوبی کے پاس ایک ستارے کا نام ہے، سہا: قطب شمالی کے نزدیک سات ستاروں میں ایک چھوٹے ستارے کا نام ہے) لہٰذا ان کا آپس میں ملنا محال ہے۔

❁ مَنْ يَلْقَى أبْطَالَ الرِجَال يُكْلَمُ: جو دلیر مردوں سے مقابلہ کرے گا زخمی ہوجائے گا۔

❁ بغَيْرِ اللَّهْوِ تَرْتَتِقُ الفُتُوق: کھیل کود سے شگاف پُر نہیں ہوتے۔ (معاملات میں جدوجہد سے کام لینے پر اکسانے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ لَيْسَ يُلامُ هَارِبٌ مِنْ حَتْفِهِ: اپنی موت سے بھاگنے والے کو ملامت نہیں کی جاتی۔

❁ رُبَّ لائِمٍ مُلِيمٌ: بہت سے ملامت کرنے والے خود قابل ملامت ہوتے ہیں۔

❁ رُبَّ مَلُومٍ لاذَنْبَ لَهُ: بہت سے ملامت کئے لوگ بے گناہ ہوتے ہیں۔

❁ رُبَّ مَلُومٍ لاعُذْرَلَهُ: بہت سے ملامت کئے گئے لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا۔ (یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ عذر ایسا بھی ہوتا ہے جس کا اعلان اور اظہار نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ یہ رُبَّ مُلُومٍ لا ذنبَ لَهُ کے معنی میں ہے۔ چنانچہ اس پر شاعر کا یہ قول صادق آتا ہے: لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا وأنْتَ تَلُومُ: شاید اس کے پاس کوئی عذر ہو جبکہ تو اس کو ملامت کر رہا ہے)

❁ اللَّيْلُ أخْفَى لِلْوَيْلِ: رات دکھ تکلیف کو زیادہ چھپانے والی (کیونکہ رات انسان کے ہر فعل کی پردہ پوشی کرتی ہے)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ اَللَّيلُ طَوِيلٌ وَّاَنْتَ مُقْمِرٌ: رات لمبی ہے اور تو چاندنی میں ہے (ضرورت ممکن ہونے تک صبر سے کام لینے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے اپنی ضرورت پر صبر کر تو اسے رات کے بقیہ حصہ میں پا لے گا۔ رات لمبی ہے اور تاریک نہیں کہ تیرے مقصد میں مانع ہو)

❁ مَاکَانَ لَيلِي عَنْ صَبَاحٍ يَنْجَلِي: میری رات صبح کو ظاہر نہیں کرتی تھی (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو عرصہ بعد ہی اپنا مطلوب پا سکے)

❁ اِنَّهُ الليلُ وَاَضْوَاجُ الوادی: یہ رات ہی ہے اور وادی کے پیچ وخم (اضواج: ضوج کی جمع ہے۔ ضوج کا معنی وادی کا موڑ ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت وادیوں کے نشیبی علاقوں میں چلا جارہا ہو ایسی حالت میں بے خبری میں قتل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ (دو خوفناک معاملوں سے خبردار کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ لَيِّنُ الكَلامِ قَيْدُ القُلُوب: نرم بات دلوں کی بیڑی ہے۔

م

❁ مِثْلُ النَّعَامَةِ لاطيرٌ ولاجملٌ: شتر مرغ کی طرح نہ پرندہ ہے نہ اونٹ (کہ خیر یا شر کے طور پر انعام میں دیا جائے)

❁ مِثْلُ ابنةِ الجبلِ مَهْمَا يُقَلْ تَقُلْ: صدائے بازگشت کی طرح کہ جب کوئی بولے وہ بول اٹھے۔ الاِمَّعَة: ہر ایک کی رائے کی تائید کرنے والا۔ ابنة الجبل: صدائے بازگشت: مراد ایسا شخص جو ہر کسی کی فرمانبرداری کرے۔

❁ لِمِثْلِ هذا كنتُ اُحْسِيكَ الحَسَا: میں ایسے ہی وقت کے لئے تجھے حریرہ پلاتا تھا، اسی وقت کے لئے تجھے پالا پوسا تھا۔ اب میری ضرورت پر کام آ۔

❁ بِمِثْلِي يُنْكَأُ القَرْحُ: مجھ جیسے شخص کے ہاتھوں زخم کریدا جاتا ہے۔ یعنی میرے ذریعے ہی برائی کا خاتمہ ممکن ہے۔

❁ مَنْ مَحَّضَكَ مودَّتَهُ فقد خوَّلكَ مُهْجَتَهُ: جس نے اپنی محبت کو تیرے لئے پر خلوص کیا اس نے تجھے اپنی جان کا مالک بنا دیا۔ مَحَّضَهُ مودّةً: کسی کے لئے محبت کو خالص کر دینا۔

❁ عِنْدَ الاِمْتِحانِ يُكْرَمُ المَرْءُ اَوْيُهَانُ: آزمائش پر ہی آدمی معزز یا ذلیل ہوتا ہے۔

❁ مَعَ المَخْضِ يبدو الزُّبْدُ: مکھن تو بلونے پر ہی نکلا کرتا ہے۔ یعنی کوشش سے یہ مراد بر آتی ہے۔

❁ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ مَرَّةً فَالْيَوْمَ لا: یہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے۔ آج نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی تھا اب نہیں ہے۔

❁ اَمَرُّ مِنَ العَلْقَمِ: اندرائن سے زیادہ کڑوا۔

❁ اَمَرُّ مِنَ الحنظلِ: اندرائن سے زیادہ کڑوا۔

❁ اَلْمَرْءُ بِاَصْغَرَيْهِ: آدمی اپنے دل اور زبان سے ہی آدمی کہلاتا ہے۔ دل اور زبان کو اصغران ان کے چھوٹے حجم کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے دل اور زبان سے ہی کیا جاتا ہے۔

❁ اَلْمَرْءُ تَوَّاقٌ اِلَى مَا لَمْ يَنَلْ: آدمی ان چیزوں کا ہی متمنی ہوتا ہے جو اسے نہ ملی ہوں۔ یعنی جس چیز سے انسان کو روکا جائے اسی کا خواستگار ہوتا ہے۔ اسی جیسا عربوں کا یہ کہنا بھی ہے: اَحَبُّ شَيءٍ اِلَى الانسان مَا مُنِعَا: جس چیز سے انسان کو روکا جائے وہی اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔

❁ اَلْمَرْءُ حَيْثُ يَضَعُ نَفْسَهُ: انسان کا درجہ وہی ہوتا ہے جہاں وہ خود کو ذلیل کرے۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے۔

❁ اَلْمَرْءُ بخَلِيلِهِ: اس کا معنی ہے تو اپنے دوست سے منسوب کیا جائے گا لہٰذا دیکھ کہ تو کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جیسا کسی کا دوست ہو ویسا ہی وہ خود ہوتا ہے۔

❁ اَلْمَرْءُ مِرْآةُ اَخِيهِ: آدمی اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔

❁ كُلُّ امْرِیءٍ يَحْتَطِبُ بِحَبْلِهِ: ہر آدمی اپنی رسی میں جلانے کی لکڑیاں جمع کرتا ہے۔

❁ كُلُّ امْرِیءٍ في بيته صَبِيٌّ: ہر آدمی اپنے گھر میں بچہ ہوتا ہے۔ یعنی ادب آداب چھوڑ کر مزاح پر اتر آتا ہے۔

❁ كُلُّ امْرِیءٍ فيه مَايُرْمَی بِهِ: ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے جس کا اس پر الزام لگایا جا سکے۔

❁ تَمَرَّدَ مَارِدٌ وعَزَّ الْاَبْلَقُ: مارد نے سرکشی کی اور ابلق سخت ہو گیا۔ یعنی حصول مقصد مشکل ہو گیا۔ مارد دومۃ الجندل کا ایک قلعہ تھا اور الابلق سموأل بن عادیا کا ایک قلعہ تھا، کیونکہ یہ مختلف رنگوں کے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ جزیرہ کی ملکہ الزباء ان قلعوں کو فتح کرنے کے لئے گئی مگر ناکام رہی۔ اس پر اس نے یہ بات کہی جو ضرب المثل بن گئی جو ہر ایسے کام پر بولی جاتی ہے جسے بجا لانا اس کے خواہاں کے لئے مشکل اور ناممکن ہو۔

❁ مَنْ مَرِضَتْ سَرِيرَتُهُ مَاتَتْ عَلانِيَتُهُ: جس کا باطن بیمار ہو اس کا ظاہر مر جائے گا۔

❁ اَمْرَعَتِ العَجْزَاءُ: ریت کا ٹیلہ سرسبز ہو گیا۔ العجزاء: ریت کا ٹیلہ۔ اَمْرَعَتْ: سرسبز ہو گیا۔ بھلائی کے ایسی جگہ سے آنے پر بولا جاتا ہے جہاں سے اس کی امید نہ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پتھر میں جونک لگ گئی۔

❁ اَمْرَعْتَ فَانْزِلْ: تو نے سرسبز جگہ پالی ہے لہٰذا یہیں اتر پڑ۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جسے اس کی ضرورت یا خواہش کی چیز مل جائے۔

❁ كَالْمُتَمَرِّغِ فِي دَمِ القتيلِ: مقتول کے خون میں لوٹنے والے کی طرح۔ شر سے قریب اور مضرت رساں چیز کے سامنے ہوتے ہوئے اس سے علیحدہ رہنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ اَمْرَقُ مِنْ سَهْمٍ: تیر سے زیادہ پار ہونے والا۔

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

- الْمُزَاحُ لِقَاحُ الضَّغَائِنِ: مذاق سے دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ کبھی کسی سے مذاق آپس میں نفرت کا باعث ہو جاتا ہے۔
- الْمُزَاحَةُ تُذْهِبُ الْمَهَابَةَ: مذاق سے رعب جاتا رہتا ہے۔
- مَنْ يَمْشِ يَرْضَ بِمَارِكِبَ: جو شخص پیدل چلے گا سواری پر رضامند ہو جائے گا۔ اس شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جو قابل نفرت کام پر مجبور ہو جائے۔
- أَمْضَى مِنَ الرِّيحِ: ہوا سے زیادہ تیز۔
- أَمْضَى مِنَ السَّيْفِ: تلوار سے زیادہ تیز۔
- أَمْضَى مِنَ السَّهْمِ: تیر سے زیادہ کاٹنے والا۔
- أَمْضَى مِنَ الْأَجَلِ: موت سے زیادہ اثر آفرین۔
- أَمْضَى مِنَ الْقَدَرِ الْمُتَاحِ: مقررہ تقدیر سے زیادہ واضح۔
- يَحْسِبُ الْمَمْطُورُ أَنَّ كُلًّا مُطِرَ: بارش میں بھیگ جانے والا سمجھتا ہے سب ہی بھیگ گئے ہیں۔
- الْمُعَيْدِيُّ تَسْمَعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ: معیدی جس کے متعلق تو سنتا ہے اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ دور کے ڈھول سہانے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی خبر اس کو دیکھنے سے بہتر ہو۔ مُعَید: ایک قبیلے کا نام۔ معیدی اس قبیلہ کا ایک شخص نعمان کے مال پر ڈاکہ ڈالتا رہتا تھا مگر نعمان کے ہاتھ نہ آتا۔ نعمان نے معیدی کی بہادری اور جرأت سن سن کر اسے امان دیدی۔ جب اسے دیکھا تو اس کی سبکی کی، کیونکہ وہ بدصورت تھا۔ اس موقع پر اس نے کہا معیدی کے بارے میں سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ معیدی نے سنا تو جواب دیا کہ لوگ اونٹ تو نہیں۔ آدمی تو اپنے زبان وقلب سے پہچانا جاتا ہے۔ نعمان کو اس کی بات پسند آئی اور اسے اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔
- قَدْ يُمَكِّنُ الْمُهْرُ بعد ما رَمَحَ: کبھی بچھیرا دولتی مارنے کے بعد سوار کو اختیار دیتا ہے۔ یہ سرکشی کے بعد قابو میں آنے والے کے متعلق کہا جاتا ہے۔
- لَيْسَ لِمَلُولٍ صَدِيقٌ: بیزار کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔
- مِنْ كَثْرَةِ الْمَلَّاحِيْنَ غَرِقَتِ السَّفِينَةُ: ملاحوں کی کثرت سے جہاز ڈوب گیا۔
- مَلِّكْ ذَا أَمْرٍ أَمْرَهُ: کام کے لائق شخص ہی کو کام کا مالک بناؤ۔ یعنی کام اس کے سپرد کرو جو اس کے کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔
- ما أَمْلِكُ شَدًّا ولا إرخاءً: باندھنا اور ڈھیلا کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ یہ بات وہ شخص کہتا ہے جس کو کسی معاملہ یا کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ میں یہ دونوں کاموں کو نہیں کر سکتا۔
- لَا يَمْلِكُ شَرْوَى نَقِيرٍ: وہ تو کھجور کی گٹھلی کے گڑھے جیسی چیز کا بھی مالک نہیں۔ الشروى: مثل، مانند۔ النقير: کھجور کی گٹھلی کا گڑھا۔ مراد یہ کہ وہ گٹھلی جیسی حقیر شے کا مالک نہیں۔
- الْمِنَّةُ تَهْدِمُ الصنيعةَ: احسان جتانا نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔
- مَنْعُ الجميعِ أَرْضَى الجميعِ: کسی کو بھی نہ دینا سب کو راضی رکھنا ہے۔ (کیونکہ کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا وجہ شکایت بن جاتا ہے کسی کو بھی نہ دو گے تو سب راضی رہیں گے۔ یہ تمہارے لئے حجت ہوگی جس کی بناء پر تم معذور سمجھے جاؤ گے۔
- أَمْنَعُ مِنْ أَنْفِ الْأَسَدِ: شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ۔
- أَمْنَعُ مِنْ عُقَابِ الجوّ: فضا کے عقاب سے زیادہ محفوظ۔
- أَمْنَعُ مِن لِهَاةِ اللَّيثِ: شیر کے تالو سے زیادہ محفوظ۔
- كُلُّ مَمْنُوعٍ مَتْبُوعٌ: ہر ممنوع چیز طلب کی جاتی ہے۔ یعنی جو چیز دستیاب نہ ہو لوگ اسی کو ڈھونڈتے ہیں۔
- إذَا تَمَنَّيْتَ فَاسْتَكْثِرْ: جب تو تمنا کرے تو بہت زیادہ کیا کر۔
- رُبَّ أُمْنِيَّةٍ جَلَبَتْ مَنِيَّةً: بہت سی تمنائیں موت لے آتی ہیں۔
- الْمَنِيَّةُ ولا الدَّنِيَّةُ: موت نہ کہ ذلت۔ یعنی میں عار کے مقابلہ میں موت کو ترجیح دوں گا۔ اسی مفہوم کے حامل یہ حکیمانہ اقوال بھی ہیں۔ المنايا ولا الدنايا اور النار ولا العار۔
- تَمُوتُ الْحُرَّةُ ولا تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا: شریف عورت مر جاتی ہے مگر اپنے پستانوں کے ذریعے سے نہیں کھاتی۔ یعنی اجرت پر کسی بچہ کو دودھ نہیں پلاتی۔ ضرورت کے باوجود شرافت کی پاسداری کرنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔
- اَلْمَوْتُ أَهْوَنُ مَابَعْدَهُ وأَشَدُّ مَاقَبْلَهُ: موت اپنے بعد کی حالت سے آسان تر اور اپنے سے پہلی حالت سے شدید تر ہے۔
- هَذَا الْمَيْتُ لَايُسَاوِيْ هَذَا الْبُكَاء: یہ مرنے والا اتنے رونے کا مستحق نہیں۔
- مَالٌ تَجْلِبُهُ الرِّيَاحُ تَأْخُذُهُ الزَّوَابِعُ: جس مال کو ہوائیں لے کر آئیں اسے آندھیاں گرفت میں لے لیتی ہیں۔
- مَاءٌ ولا كَصَدَّاءَ: پانی تو ہے مگر صدا، جیسا نہیں۔ (جو عربوں کے ہاں بہترین پانی سمجھا جاتا تھا) ایک کی دوسری پر برتری تسلیم کرنے کے بارے میں یہ مثل بیان کی جاتی ہے۔
- يَامَاءُ لَوْ بِغَيْرِكَ غَصِصْتُ: اے پانی! کاش تیرے سوا کسی اور چیز سے مجھے پھندا لگتا۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جسے مصیبت ایسی جگہ سے آئے جہاں وہ نجات اور امداد کی توقع رکھتا تھا۔

ن

- أنأى من الكوكب: ستارہ سے بھی زیادہ دور۔
- لَايُنْبِتُ البقلةَ إلَّا الحَقْلَةُ: ساگ کو کھیت ہی اگاتا ہے۔ یعنی گھٹیا بات گھٹیا آدمی کے منہ سے ہی نکلا کرتی ہے۔
- نَبْحُ الكِلَابِ لَايَضُرُّ بالسحاب: کتوں کے بھونکنے سے بادل کا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔
- أَنْجَزَ حُرٌّ مَاوَعَدَ: شریف نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ حرث بن عمرو

marfat.com

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

کندی کا قول ہے جو اس نے صخر بن نہشل سے کہا تھا جسے اس نے ایک ایسی جگہ کا پتہ اس شرط پر بتایا تھا کہ وہاں سے جو لوٹ کا مال وہ حاصل کرے گا اسے اس کا پانچواں حصہ دے گا۔ صخر نے یہ شرط قبول کی اور وعدہ کر لیا۔ جب صخر اس لوٹ سے کامیاب واپس آیا تو حارث نے مذکورہ بالا قول کہا تھا۔ مراد وعدہ پورا کرنے کی ترغیب دلانا ہے۔

❁ نَـاجِزًا بِـنَـاجِزٍ: نقداً نقد۔ یَدًا بِیَدٍ بھی اسی مفہوم کا حامل ہے۔ نـاجزًا سے پہلے ابیعک کا لفظ مقدر سمجھا جانے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ناجزٌ بناجِزٍ بھی مروی ہے۔

❁ دُوْنَـهُ النَّجْمُ: اس سے نیچے تو ستارہ ہی ہے۔ یہاں نجم سے مراد عام ستارہ بھی ہو سکتا ہے اور ثریا بھی۔

❁ مَـنْ نجابرَاْسِهٖ فَقَدْ رَبِحَ: جو اپنا سر بچالے گیا، نفع میں رہا۔ یہ ایک شاعر کے قول کا حصہ ہے۔ شاعر کہتا ہے:

أَللَّيْلُ دَاجٍ وَالْكِبَاشُ تَنْتَطِحُ
نِطَاحَ أُسْدٍ مَاأَرَاهَا تصطلح
فَـمَـنْ نَـجَا بِرَأْسِهٖ فَقَدْ رَبِحَ

(رات اندھیری ہے اور مینڈھے سینگ مارتے ہیں۔ ان کی ٹکریں شیروں کی ٹکروں جیسی ہیں مجھے وہ صلح کرتے نظر نہیں آتے۔ لہٰذا جو اپنا سر بچالے جائے وہ فائدہ میں رہے گا۔ یہ ضرب المثل اسی قسم کی صورت حال کے متعلق ہے۔

❁ مَاأَنتِ نَجِيَّةٌ ولا سَبِيَّةٌ: نہ تو تو نجات یافتہ ہے اور نہ قیدی۔

❁ نَحَتَ أَثْلَتَهُ: اس نے اس کے اصل وحسب کو چھیل ڈالا۔ یعنی اس کی قلعی کھول دی۔ اثلۃ: جھاؤ کا درخت۔ یہاں مراد اصل وحسب ہے۔

❁ الـنـدَمُ عـلـى السكوت خير من النَّدَمِ على القول: خاموشی پر ندامت بولنے پر ندامت سے بہتر ہے۔

❁ انْـدَمُ مِـنَ الْـكُـسْـعِيِّ: کسعی سے زیادہ نادم۔ کسعی ایک وادی میں اپنے اونٹ چرانے کے لئے گیا جہاں ایک ہموار چٹان پر شوحط کا پودا اگا ہوا تھا جس کی لکڑی سے تیر کمان بنائے جاتے ہیں۔ کسعی نے اپنے مشکیزہ سے پودے کو پانی دیا اور ایک سال تک اس کی آبیاری کرتا رہا۔ جب پودا بڑھ کر درخت بن گیا تو کسعی نے کاٹ کر کمان اور پانچ تیر بنائے۔ اور گورخر کے شکار کے لئے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب گورخروں کا گلہ پانی پینے کے لئے آیا تو کسعی نے تیر چلایا جو ایک گورخر کے پار نکل کر ایک چٹان سے ٹکرایا جس سے چنگاریاں نکلیں۔ کسعی سمجھا تیر خطا گیا۔ اس طرح اس نے پانچ تیر چلائے اور ہر تیر کو سمجھتا رہا کہ خطا گیا اور غصہ میں اپنی کمان توڑ ڈالی۔ صبح کو دیکھا تو پانچوں تیر خون آلود ملے اور پانچ گورخر شکار ہوئے پڑے تھے۔ اس نے ندامت اور افسوس سے اپنی انگلیاں کاٹیں اور یہ اشعار پڑھے۔

ندمت ندامة لو ان نفسي
تطاوعني إِذًا لقتلت نفسي
تَبَيَّنَ لِي سفاه الرأى مني
لَعَمْرُ اللّٰهِ حِيْنَ كَسَرْتُ قَوْسِي
وقد كانت بمنزلة المفدى
لَدَيَّ وعِنْدَ صِبْيَانِي وَعِرْسِيُ
فلم ملك غداة رأيت حَوْلِيَ
حمير الوحش أَنْ ضَرَّجت خَمْسِيُ
كُلّ النِدَاءِ إِذَا نَادَيْتُ يَخْذُلُنِيُ
الاالنِدَاءَ إِذَا نَادَيْتُ يَامَالِي

(مجھے ایسی ندامت ہوئی کہ اگر میرا نفس میری بات مانتا تو میں خودکشی کر لیتا۔ جب میں نے اپنی کمان توڑ ڈالی تو۔ خدائے لم یزل کی قسم مجھ پر اپنی رائے کی غلطی واضح ہوگئی۔ کمان مجھے میرے بچوں اور بیوی کے لئے محبوب کا درجہ رکھتی تھی صبح سویرے جب میں نے اپنے اردگرد پانچ گورخر پڑے دیکھے تو میں اپنی پانچ انگلیوں کو خون آلود کرنے سے خود کو نہ روک سکا۔ ہر آواز جو میں دیتا ہوں مجھے رسوا کرتی ہے۔ بجز اس آواز کے کہ میں کہوں یامالی)

❁ الـنـزائـعَ لاالقرائبَ: دور کی عورتوں سے نکاح کرو، قریب عورتوں سے نہیں۔ الـنـزائع نزیعة کی جمع ہے جس کا معنی اجنبی عورت ہے جبکہ القرائب قریبۃ کی جمع ہے جس کا معنی رشتہ دار (عورت) ہے۔ نـزائـع و قـرائـب فـعـل تـزوجـوا کی وجہ سے محذوف ہیں یعنی دراصل یہ تزوجوا النزائع ولا تزو جوا القرائب کے معنی میں ہے۔

❁ نَزَلْتَ مِنْهُ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ: تو اس کے ہاں ایسی وادی میں اترا ہے جہاں کھیت نہیں ہیں۔ مراد کنجوس کے پاس اترا ہے جس سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

❁ إِذَا نَزَابِكَ الشرُّ فَاقْعُدْ: برائی کی طرف جلدی جانے سے پرہیز کرو خواہ اس پر مجبور ہو جائے۔

❁ لَيْسَ عَلَيْكَ نَسْجُهُ فَاسْحَبْ وَجُرّ: اس کا بننا تیرے ذمے نہیں لہٰذا کھینچ اور گھسیٹ۔ چونکہ تو نے اس میں کوئی محنت و مشقت نہیں کی اس لئے تو اس کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ مثال اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اس چیز کو ضائع کر دے جس کو کمانے اور حاصل کرنے میں اس نے کوئی دوڑ دھوپ نہ کی ہو۔

❁ إِنَّـهُ نسيجُ وَحْدِه: اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یعنی یکتا و منفرد ہے۔ بے نظیر ہے۔

❁ إِنَّ الـنِـسَـاءَ حَبَـائِلُ الشَّيْـطَـانِ: عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ الـحبـال: شکار کو پھانسنے کے لئے لگائے ہوئے جال۔ جمع کا صیغہ ہے واحد حبالة

❁ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الأَقْوَامِ: عورتیں مردوں کا نصف حصہ ہیں۔ اس مثال کا معنی یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی مانند ہیں، لہٰذا وہ مساوی حقوق کی مالک ہیں۔ یہاں اقوام سے مراد صرف مرد ہیں۔

❁ الـنَـشِيْـدُ مَعَ الْمَسَرَّةِ: شعر خوانی خوشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مثل

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ایسی چیز کے متعلق ہے جو بے وقت طلب کی جائے۔ یعنی بے وقت کی راگنی۔ گانا اس وقت گایا جاتا ہے جب طبیعت خوش ہو۔ یہ بات شنفری نے اس وقت کہی تھی جب بنو سلامان نے اس کو قید کر لیا اور قتل کرنے سے پہلے شعر سنانے کی فرمائش کی تھی۔

❁ أَنْشَطُ مِنْ ظَبْيٍ مُقْمِرٍ: چاندنی رات والے ہرن سے زیادہ خوش۔ کیونکہ وہ چاند کی روشنی میں خوش ہو کر کھیلتا ہے۔

❁ إِذَا نَصِرَ الرَّأْيُ بَطَلَ الْهَوٰى: عقل کی امداد حاصل ہو تو خواہش نفس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مثل عقل کی اتباع کے بارے میں ہے۔

❁ نُصْرَةُ الْحَقِّ شَرَفٌ: حق کی مدد کرنا مایہ ناز ہے۔

❁ لَوْ أَنْصَفَ النَّاسُ إِسْتَرَاحَ الْقَاضِي: اگر لوگ انصاف سے کام لیتے تو منصف کو آرام مل جاتا۔

❁ لَا يُنْتَصَفُ حَلِيمٌ مِنْ جَهُولٍ: بردبار کا انتقام جاہل سے نہیں لیا جاتا۔ جواب جاہلاں باشد خموشی۔ یہ مثل اس جاہل کے بارے میں ہے جو عقلمند پر غالب ہو جائے اور عقلمند اسے گالیاں دینے سے قاصر رہے۔

❁ نِصْفُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النَّاسِ: ملنساری آدھی عقل ہے۔

❁ أَنْضَجَ أَخُوكَ ثُمَّ رَمَّدَ: تیرے بھائی نے پکایا پھر راکھ میں ڈال دیا۔ یعنی کام اچھا کر کے خراب کر دیا۔ اصل یہ ہے کہ آدمی گوشت پکائے پھر اسے راکھ میں پھینک دے اور یوں اس کا ستیاناس کر ڈالے۔

❁ عِنْدَ النِّطَاحِ يُغْلَبُ الْكَبْشُ الْأَجَمُّ: سینگ ٹکرانے پر بے سینگ مینڈھا مغلوب ہو جاتا ہے۔ الأجم: جس کا سینگ نہ ہو۔ اس شخص کی مثال ہے جو ضروری تیاری کے بغیر کوئی کام کرنے پر ناکامی کا سامنا کرے۔

❁ أَنْطَقُ مِنْ سَحْبَانَ: سحبان سے زیادہ خطیب۔

❁ مَنْ نَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ سَلِمَ مِنَ النَّوَائِبِ: نتائج پر نظر رکھنے والا مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔

❁ مَنْ صَارَ نَعْجَةً أَكَلَهُ الذِّئْبُ: جو بھی بھیڑ بنے بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔

❁ رُبَّ نَعْلٍ شَرٌّ مِنَ الْحَفَاءِ: بہت سے جوتے ننگے پاؤں ہونے سے بدتر ہوتے ہیں۔

❁ نَعِمَ كَلْبٌ مِنْ بُؤْسِ أَهْلِهِ: کتا اپنے مالک کی تنگی اور فقر سے موٹا تازہ ہو گیا۔ اس ضرب المثل کی اصل یہ ہے کہ کچھ عربوں کے اونٹ اور بکریاں بیماری سے مرنے لگے اور ان کے کتے ان کا گوشت کھا کھا کر موٹے ہو گئے۔

❁ مِثْلُ النَّعَامَةِ لَا طَيْرٌ وَلَا جَمَلٌ: شترمرغ جیسا، جو نہ پرندہ ہے اور نہ اونٹ۔ اس شخص کی مثل ہے جسے اچھا یا برا قرار نہ دیا جا سکے۔

❁ نَفَخْتَ فِي غَيْرِ ضَرَمٍ: تو نے پھونکیں ماریں مگر جلانے کی لکڑیوں میں نہیں (کہ آگ بھڑکتی) یہ مثل بے موقع کوششیں صرف کرنے والے کے متعلق بولی جاتی ہے۔ الضرم کا معنی آگ یا جلد جل اٹھنے والی لکڑیاں ہیں۔ اور نفخ فی غیر ضرم ایسی جگہ پھونکیں مارنا ہے جہاں آگ ہی نہ ہو۔

❁ مَا بِهَا نَافِخُ ضَرَمَةٍ: گھر میں کوئی نہیں۔ ما بہا سے مراد مالدار ہے۔ الضرمة کوئی چیز جس میں آگ جلائی جائے۔

❁ أَنْفَذُ مِنَ السَّهْمِ: تیر سے زیادہ سوراخ کرنے والا۔

❁ أَنْفَرُ مِنْ ظَبْيٍ: ہرن سے زیادہ بدکنے والا۔

❁ أَنْفَرُ مِنْ نَعَامَةٍ: شترمرغ سے زیادہ بدکنے والا۔

❁ أَنْفَرُ مِنْ بَعِيرٍ أَزَبَّ: گھنے بالوں والے اونٹ سے زیادہ بدکنے والا۔ الازب: بہت بالوں والا۔ دوسرے لفظوں میں اونٹ بالوں کی لمبائی کو اپنی آنکھوں پر دیکھ کر اسے اور کوئی وجود سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور بدکار رہتا ہے۔

❁ نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَامًا: عصام کے نفس نے عصام کو سردار بنا دیا۔ مراد وہ اپنے زور بازو سے سردار بنا۔ عصام بادشاہ نعمان کا دربان تھا۔ پھر بادشاہ بن گیا۔ کسی نے اس کے متعلق یہ شعر کہا:

نفسُ عِصامٍ سَوَّدَتْ عِصامًا
وعَلَّمَتْهُ الكَرَّ والاقداما
وصَيَّرَتْهُ مَلِكًا هُماما

(عصام کے نفس نے عصام کو سردار بنا دیا اور اس کو حملہ کرنا اور پیش قدمی کرنا سکھائی اور اسے باہمت بادشاہ بنا دیا) عصام ان لوگوں کے لئے ضرب المثل بن گیا جو شرف و بزرگی اپنی ذاتی کوشش سے حاصل کرتے ہیں وراثت میں نہیں پاتے۔ اس کے مقابلہ میں عظامی وہ ہوتا ہے جسے شرف و بزرگی اپنے اسلاف سے ملے۔ عظامی عظام سے نسبت ہے اور عظام سے مراد عظام اجداد ہے۔ چنانچہ اپنے آپ پر فخر کرنے والا عصامی اور آباؤ اجداد پر فخر کرنے والا عظامی کہلاتا ہے۔

❁ النَّفْسُ مُولَعَةٌ بِحُبِّ الْعَاجِلِ: نفس جلد حاصل ہونے والی چیز سے محبت کا شیدا ہے۔ یہ جریر کے شعر کا دوسرا مصرع ہے۔ پہلا مصرع یوں ہے:

إِنِّي لَأَرْجُو مِنْكَ شَيْئًا عَاجِلًا: میں تجھ سے جلد ملنے والی چیز کا امیدوار ہوں۔

❁ النَّفْسُ تَعْلَمُ مَنْ أَخُوهَا النَّافِعُ: نفس جانتا ہے کہ اس کا منفعت بخش بھائی کون ہے۔ اس شخص کے بارے میں ہے جس کی ضرورت پڑنے پر تعریف یا مذمت کی جائے۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ انسان جانتا ہے کہ کون سود مند ہے اور کون نقصان رساں۔

❁ مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ عَظْمًا أَكَلَتْهُ الْكِلَابُ: جو شخص خود کو ہڈی بنا لے اسے کتے کھا جاتے ہیں۔

❁ مَا يَنْفَعُ الْكَبِدَ يَضُرُّ الطِّحَالَ: جو چیز جگر کے لئے مفید ہو وہ تلی کے لئے مضر ہوتی ہے۔

❁ لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ: احتیاط تقدیر کے مقابلے میں چنداں مفید

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

نہیں۔

❁ ماتنفعُ الشعْفةُ فِي الْوَادِي الرُّغُب: ہلکی پھلکی بارش اس وادی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو اتنی کشادہ ہو کہ صرف ہر چیز کو بہالے جانے والا سیلاب ہی اسے بھر سکتا ہو۔ عطاء اس قدر کم کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔

❁ لاینفعُكَ مِنْ جَارِ سُوءٍ توَقٍّ: برے پڑوسی سے بچنا بے فائدہ ہے۔ یعنی تو اس سے بچ نہیں سکتا۔

❁ وَمَا نفعُ السُّيُوفِ بِلاَ رِجَالٍ: مردوں کے بغیر تلواروں کا کیا فائدہ۔

❁ النقْدُ عِندَا لحافرة: نقد سبقت کے وقت ہوتا ہے (کیونکہ گھوڑا سبقت لے جائے تو اس کا مالک جیتی ہوئی رقم لیتا ہے۔ الحافرة: وہ زمین جو گھوڑے نے اپنے پاؤں سے کھودی ہو۔ یہاں حافرة محفورة کے معنی میں ہے۔ بعض کے نزدیک معنی النقد عند حافر الفرس ہے۔ یعنی جب تم کوئی جانور خریدو تو بغیر اس کی قیمت ادا کئے وہاں سے نہ ٹلو۔ یہ مثل ضرورت جلدی پوری کر لینے کے بارے میں ہے۔

❁ النقْدُ صَابُونُ القُلُوب: نقد دلوں کا صابن ہے۔ یعنی نقد (ادائیگی سے دل صاف رہتے ہیں وسوسے پیدا نہیں ہوتے)

❁ مَانَقصَ مِن مَالِكَ مازَادَ فِي عَقْلِكَ: جس مال نے تیری عقل میں اضافہ کیا وہ کم نہیں ہوتا (ضائع نہیں ہوتا)

❁ مَنْ نقَلَ إِلَيْكَ فَقَدْ نَقَلَ عَنْكَ: جو تمہیں دوسروں کی باتیں بتائے وہ تمہاری باتیں بھی دوسروں کو بتا کر رہے گا۔

❁ أَنْقَلُ مِنْ فَيْءٍ: سایہ سے زیادہ منتقل ہونے والا۔

❁ أَنْقِي مِنَ الدَّمْعَةِ: آنسو سے زیادہ شفاف۔

❁ انقی مِنْ مِرآة الغريبة: اجنبی عورت کے آئینہ سے زیادہ صاف ہے۔ (الغریبۃ: وہ عورت جو غیر لوگوں میں بیاہی ہو۔ وہ اپنا آئینہ ہمیشہ اجلا رکھتی ہے۔ تا کہ اس کے چہرہ کی کوئی چیز مخفی نہ رہے)

❁ أنقى مِنَ الرَّاحَةِ: ہتھیلی سے زیادہ صاف۔ مثلاً کہا جاتا ہے: تركته على أنقى من الراحة: میں نے اس کو ہتھیلی سے زیادہ صاف حالت میں چھوڑا۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا جس طرح ہتھیلی پر بال نہیں ہوتے۔

❁ أنكرُ مِنْ شَيْءٍ: چیز سے زیادہ غیر معین۔ چیز سب سے زیادہ غیر معین ہے کیونکہ اس کا اطلاق تمام موجودات پر ہوتا ہے۔

❁ أَنَمُّ مِنَ التراب: مٹی سے زیادہ چغلخور۔ (یہ اس کے بارے میں اس لئے کہا گیا ہے کہ مٹی پر نشانات قائم رہتے ہیں۔ اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی کے پاؤں کے نشان ہیں)

❁ أَنَمُّ مِنَ الصُّبْحِ: صبح سے زیادہ راز افشا کرنے والا۔ (کیونکہ صبح ہر چیز کو بے نقاب کر دیتی اور کچھ نہیں چھپاتی)

❁ مَنْ نَهَشَتْهُ الحيَّةُ حَذِرَ الرَّسَنَ: سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ (دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے)

❁ هَلْ يَنهَضُ البَازِي بِلاَجَنَاحٍ: کیا شکرا بغیر بازوؤں کے اڑ سکتا ہے؟ تعاون کی ترغیب کے بارے میں نیز ایسے مدعی علم کے لئے کہا جاتا ہے جس کے پاس اس کی صلاحیت ہی نہ ہو)

❁ لاتنهَ عَنْ خلقٍ وَتَاتِيَ مِثْلَهُ: لوگوں کو کسی ایسی عادت سے منع مت کرو جو تم میں بھی پائی جاتی ہو۔ (خود را فصیحت دیگراں را نصیحت)

❁ النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ: لوگوں کو اپنے اعمال کی سزا ملتی ہے۔

❁ النَّاسُ أَتْبَاعُ مَنْ غَلَبَ: لوگ غالب آنے والے کے متبع ہوتے ہیں۔

❁ النَّاسُ أَعْدَاءُ مَاجَهِلُوا: لوگ ہر اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔

❁ النَّاسُ عَبِيْدُ الإحْسَانِ: لوگ احسان کے غلام ہیں۔

❁ لِكُلِّ أناسٍ في بعيرهم خبر: سب لوگ اپنے اپنے اونٹوں کی خبر رکھتے ہیں (ہر قوم اپنے معاملات کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ جانتی ہے)

❁ إسْتَنْوَقَ الجَمَلُ: اونٹ اونٹنی کے مشابہ ہو گیا (اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے)

❁ لاَنَاقَتِي فِيْ هَذَا وَلاَجَمَلِي: اس معاملہ میں نہ تو میری اونٹنی ہے نہ اونٹ (ظلم اور گناہ سے بری الذمہ ہوں)

❁ نَامَ عِصَامٌ سَاعَةَ الرَّحِيلِ: کوچ کے وقت عصام سو گیا (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بوقت ضرورت غائب ہو جائے)

❁ النَّوَى أَوَّلُ الشَّجَرَةِ: گٹھلی درخت کا پہلا حصہ ہے۔

ہ

❁ يَهُبُّ مَعَ كُلِّ رِيْحٍ: (ہر ایک کی رائے کی اتباع کرنے والا (الامعۃ) ہر ہوا کے ہمراہ چل پڑتا ہے۔

❁ أَهْدَى مِنَ القَطَا: قطا سے زیادہ ہدایت یافتہ (یہ مثل قطاۃ جمع قطا: بھٹ تیتر کے بارے میں ہے۔ جسے بے راستہ و بے نشان بیابان میں بھی اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتا)

❁ أَهْدَى من الْيَدِ إلى الفَمِ: منہ کی طرف بڑھنے والے ہاتھ سے بھی زیادہ رہنما۔

❁ لاتهْرِفْ بِمَا لا تَعْرِفْ: جس کو نہ جانتے ہو اس کی تعریف مت کرو۔ (الهَرَف۔ تعریف میں مبالغہ سے کام لینا۔ اچھی طرح واقفیت کرنے سے پہلے کسی چیز کی تعریف میں حدود سے تجاوز کرنے پر بولا جاتا ہے۔

❁ هَرِّقْ عَلَى جَمْرِكَ: اپنی چنگاری پر پانی ڈالو۔ (هَرَّقَ الماءَ: پانی ڈالنا۔ غضبناک شخص کے لئے کہا جاتا ہے۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کر)

❁ إذَا هَلَكَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ في الرِّبَاطِ: جب کوئی گدھا ہلاک ہو جائے (تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں) کیونکہ ایسا ہی ایک گدھا رسی میں (بندھا) موجود ہے۔ (الرباط اس رسی کو کہتے ہیں جس سے گھوڑوں

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

یا اونٹوں کو باندھا جاتا ہے۔ ہاتھ سے نکلنے والی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے اگر اس کا متبادل مل جاتا ہو۔

❁ إِمَّا هُلْكٌ وإِمَّا مُلْكٌ: یا ہلاکت یا ملک (تخت یا تختہ)

❁ أَهْلَكُ مِنْ تُرَّهَاتِ السَّبَاسِبِ: صحراء کے شاخ درشاخ راستوں سے زیادہ ہلاکت خیز (کیونکہ ایسے راستوں کی بھل بھلیوں میں پھنس کر راہ نورد ہلاک ہو جاتا ہے۔ التُّرَّهات: کسی بڑے راستے سے نکلنے والے شاخ درشاخ راستے۔ سباسب۔ لق ودق صحراء)

❁ كُلُّ هَمٍّ إِلَى فَرَجٍ: ہر غم کشادگی کی طرف لے جاتا ہے۔) مصیبت کے بعد راحت ہے)

❁ هَانَ عَلَى الْأَمْلَسِ مَالَاقَى الدَّبِرُ: صاف پیٹھ والے اونٹ پر وہ چیز آسان ہے جس سے زخمی پیٹھ والے کو واسطہ پڑے۔ (الدبر: زخمی پیٹھ والا جانور۔ الأَمْلَس سے یہاں صاف پیٹھ والا (اونٹ) مراد ہے۔ مصیبت زدہ کی تکلیفوں کا احساس کرنا چاہیئے۔)

❁ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَهُوَ عَلَى غيره أَهْوَنُ: اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے والا دوسروں کے لئے بھی ہلکا ہوگا۔ (اپنی عزت اپنے ہاتھ)

❁ مَنْ أَهَانَ مَالَهُ أَكْرَمَ نَفْسَهُ: اپنے مال کو حقیر سمجھنے والا خود کو معزز بنا لیتا ہے۔ (جو مال خرچ کرے گا اس کو عزت حاصل ہوگی)

❁ هَوِّنْ عَلَيْكَ وَلَا تُوْلَعْ بِإِشْفَاقٍ: کوئی پرواہ نہ کر اور نہ کسی سے خوفزدہ ہو۔ دنیا سے جو جاتا ہے جانے دے کیونکہ بالآخر اسے چھوڑنا پڑے گا۔

❁ أَهْوَنُ مِنَ النَّبَاحِ عَلَى السَّحَابِ: بادلوں پر بھونکنے سے زیادہ بے قدر (کیونکہ صحرائی کتا کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتا ہے۔ بارش میں بھیگنے پر بادل پر بھونکنے لگتا ہے۔ اور جب بھی بادل آئیں بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔

❁ أَهْوَنُ مِنْ قُعَيْسٍ عَلَى عَمَّتِهِ: قعیس سے بھی زیادہ بے قدر جتنا وہ اپنی پھوپھی کے نزدیک تھا۔ قعیس کوفہ کا رہائشی تھا موسم سرما میں اپنی پھوپھی سے ملنے آیا جس کا مکان تنگ تھا۔ پھوپھی نے کتا مکان میں داخل کر لیا اور قعیس کو باہر ہی رہنے دیا۔ چنانچہ وہ سردی سے مر گیا۔

❁ مَا أَهْوَنَ الْحَرْبَ عَلَى النَّظَّارَةِ: تماشائیوں کے لئے جنگ کتنی آسان ہے۔ (کیونکہ وہ لڑائی دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑائی میں حصہ نہیں لیتے)

❁ إِنَّ الْهَوَانَ لِلَّئِيمِ مَرْأَمَةٌ: کمینے کے لئے بے عزتی مہربانی ہے۔ (المرأمة: مہربانی، رافت، کمینے کو بے عزت کرو تو وہ اسے اپنے لئے مہربانی کا اظہار سمجھتا ہے۔ اگر اس کی عزت کی جائے تو وہ تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا اور اس کے شروفساد میں اضافہ ہو جائے گا۔

❁ الْهَوَى مِنَ النَّوَى: محبت دوری سے ہوتی ہے۔ (انسان جو کچھ روزانہ دیکھتا ہے اسے حقیر سمجھتا ہے اور اس سے اکتا جاتا ہے)

❁ إِنَّ الْهَوَى شَرِيكُ الْعَمَى: محبت ایک قسم کا اندھا پن ہے۔ (اس جیسا عربوں کا قول ہے حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ: کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا سا بنا دیتی ہے)

❁ إِنَّ الْهَوَى الْهَوَانُ: محبت ذلت کا نام ہے (اس راہ میں ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں)

❁ مَنْ هَابَ خَابَ: جو ڈرا، گیا کام سے۔

❁ مَنْ هَابَ الرِّجَالَ تَهَيَّبُوهُ: جو لوگوں سے ڈرے، لوگ اسے ڈرائیں گے۔

و

❁ لَوْلَا الْوِئَامُ لَهَلَكَ الْأَنَامُ: اگر موافقت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے (الوئام: موافقت۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور مل جل کر رہنے میں لوگوں کی موافقت نہ ہوتی تو لڑ جھگڑ کر ہلاک ہو جاتے)

❁ وَجَعُ سَاعَةٍ وَلَا كُلِّ سَاعَةٍ: ایک گھڑی کی تکلیف نہ ہر گھڑی کی۔ دم بھر کی تکلیف ہے عمر بھر کی نہیں)

❁ لَمْ أَجِدْ لِشَفْرَةٍ مَحَزًّا: میں نے چھرے کے لئے کاٹنے کی جگہ نہیں پائی (میں نے معاملہ میں کوئی گنجائش نہیں پائی)

❁ الوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ: برے ہمنشین سے تنہائی بہتر ہے۔

❁ وَحَمَى بِلَا حَبَلٍ: حمل کے بغیر مختلف اشیاء کی خواہش کرنے والی (یہ مثل اس شخص کے بارے میں ہے جو ہر اچھی چیز کا ذکر سن کر اس کی خواہش کرے یا ایسے لالچی شخص کے بارے میں جو بلا ضرورت مانگتا پھرے۔ وَحْمَى: حاملہ عورت جسے مختلف چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے)

❁ دَعْ عَنْكَ بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ: چھوٹے چھوٹے راستے چھوڑ کر واضح راہ اختیار کرو (یعنی ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ کر اصل اور بڑے کام کی طرف توجہ دو)

❁ دَعِ الْعَوْرَاءَ تَخَطَّاكَ: بُری چیز کو اپنے آپ سے آگے بڑھ جانے دو۔ (العوراء: بُری خصلت، کلمہ بد، تخطاك: تجھ سے تجاوز کرے۔ یہ عربوں کی ایک نہایت حکیمانہ ضرب المثل ہے)

❁ دَعِ الْقَطَا يَنَمْ وَشَرًّا يَعْبُرْ: بھٹ تیتر کو سو جانے دو اور شر کو گزر جانے دو (اہم کام پر عمل ہونے دو)

❁ دَعِ اللَّوْمَ إِنَّ اللَّوْمَ عَوْنُ النوائب: ملامت کرنا چھوڑ دو، ملامت کرنا مصائب کا معین و مددگار ہے۔

❁ وَدَّعَ مَالًا مُوْدِعُهُ: مال کو اس کو بطور امانت رکھوانے والے نے چھوڑ دیا۔ (بداعتقادی کے بارے میں ضرب المثل ہے، کیونکہ ...

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

شخص اپنا مال کسی اور شخص کے پاس بطور امانت رکھتا ہے تو وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی واپسی کی امید نہیں رہتی۔

❁ **بِكُلِّ وَادٍ بَنُو سَعْدٍ:** ہر وادی میں بنو سعد ہی ہیں۔ (بنو سعد کے ایک شخص اضبط بن قُریع نے اپنی قوم کی ناپسندیدہ باتیں دیکھ کر ان سے علیحدگی اختیار کی اور جب دوسروں میں بھی ویسی برائیاں دیکھیں تو اپنی قوم میں واپس آ گیا اور کہا کہ ہر وادی میں بنو سعد ہی بستے ہیں۔ اور اس کا یہ قول ضرب المثل بن گیا۔ جو اس شخص کے بارے میں بیان کی جاتی ہے جسے ویسے ہی افراد سے سابقہ پڑے جیسے لوگوں کو وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔

❁ **بِكُلِّ وَادٍ أَثَرٌ مِنْ ثَعْلَبَة:** ہر وادی میں ثعلبہ کا اثر پایا جاتا ہے۔ (یہ قول بنی ثعلبہ کے ایک شخص کا ہے جو اپنی قوم میں ناپسندہ خصلتیں دیکھ کر دوسروں کے پاس چلا گیا تھا لیکن اس میں بھی ویسی ہی بری خصلتیں پائیں)

❁ **وَرَاءَكَ أَوْسَعُ لَكَ:** پیچھے رہ تو اپنے لئے زیادہ گنجائش پائے گا۔

❁ **مَاوَرَائَكَ اَوْ وَرَائَكِ يَاعِصَام:** اے عصام! تیرے پیچھے کیا ہے (آنے والے سے جہاں سے آیا ہے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے بارے میں ضرب المثل ہے۔ وراءك۔ ک کی زبر کے ساتھ ہو تو مفہوم یہ ہے کہ عصام نے جو بادشاہ نعمان کا دربان تھا بیمار بادشاہ کی عیادت کے لئے آنے والے نابغہ شاعر کو اس کے پاس جانے سے روک دیا تھا۔ نابغہ نے اپنے قصیدہ میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

فانی لاالومك من دخول

ولكن ماورائكَ يا عصام؟

(عصام! میں تجھے داخل ہونے کے بارے میں ملامت تو نہیں کرتا لیکن یہ تو بتا دے کہ تیرے پیچھے کیا حال ہے؟ یعنی نعمان کا کیا حال ہے؟) ماوراءِک کی زیر کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ کندہ کے بادشاہ حارث بن عمرو نے کندہ کی عصام نامی ایک عورت کو عوف شیبانی کے پاس اس کی بیٹی کے لئے شادی کا پیغام دے کر بھیجا، کیونکہ اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ بڑی خوبصورت اور عقلمند ہے۔ جب وہ حارث کے پاس واپس آئی تو اس نے دور ہی سے پوچھا: ماوراءِک یا عصام۔ عصام ادھر کی کیا خبر ہے؟

❁ **أَوْرَدْتَ مَالَمْ تُصْدِرْ:** تو نے وہ چیز درآمد کی ہے جو تو نے برآمد نہیں کی (یعنی تو نے ایسی بری بات کہہ دی جسے تو دہرا نہیں سکتا۔ یا تو نے ایسا برا کام کیا ہے جس کی تو تلافی نہیں کر سکتا۔

❁ **حَتّٰى يَرِدَ الضَّبُّ:** یہاں تک کہ گوہ پانی پیئے (یعنی کبھی نہیں، کیونکہ گوہ پانی نہیں پیتی)

❁ **مَاهٰكَذَا تُوْرَدُ سَعْدُ الْإِبِلُ:** اے سعد! اونٹوں کو اس طرح پانی نہیں پلایا جاتا۔ (یہ مالک بن زید مناۃ بن تمیم نے اپنے بھائی سعد کو بے پروائی سے اونٹوں کو پانی پلاتے دیکھ کر کہی تھی۔ مطلب یہ کہ معاملات کو اس برے طریقے سے سرانجام نہیں دیا جاتا)

❁ **هٰذا وَلَمَّا تَرِدْ تِهَامَةَ:** یہ گھبراہٹ حالانکہ تم ابھی مکہ نہیں پہنچے۔ (یعنی معاملہ کے پیش آنے سے پہلے گھبراہٹ۔ اسی مفہوم کا ایک شعر ہے:

أشوقًا ولمّا يَمْضِ لی غَيْرُ لَيْلَةٍ

فكَيْفَ إذا سارا المَطیُّ بنا عشرًا

(اتنا شوق! حالانکہ میری ایک رات بھی نہیں گزری۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب سواری ہمیں لئے دس راتیں چلتی رہے گی)

❁ **مَوْرِدُ الْجَهْلِ وَبِيُّ الْمَنْهَلِ:** جہالت کا گھاٹ ناخوشگوار پانی پینے کی جگہ ہے۔ (جہالت کو کام میں لانے سے باز رہنا چاہئے)

❁ **وَاسِطَةُ الْقِلَادَةِ:** ہار میں سب سے بڑا دانہ (کسی چیز کے ایک حصہ کے پوری چیز پر تفوق کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ **أَوْسَعْتُهُمْ سَبًّا وَأَوْدُوْا بِالْإِبِلِ:** تم نے انہیں گالیاں تو کھل کر دیں مگر وہ اونٹوں کو لے ہی گئے۔ (ایسے شخص کے بارے میں ضرب المثل ہے جو اپنے دشمن کو گالیاں اور دھمکیاں دے لیکن دشمن کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ کعب بن زہیر نے اپنے باپ زہیر سے اس وقت کہا تھا جب حرث ابن ورقاء جو بنی اسد سے تھا حملہ کر کے اس کے اونٹوں اور ان کے چرواہے کو لے گیا۔ زہیر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ہجو کرتا، انہیں گالیاں اور دھمکیاں دیتا رہ گیا مگر انہوں نے اس کی مطلق پروا نہ کی۔ تب زہیر کے بیٹے کعب نے اس سے مذکورہ بالا مقولہ کہا تھا)

❁ **إِتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ:** پھٹن جوڑنے والے پر وسیع ہو گئی (یعنی فساد اتنا بڑھ گیا ہے کہ تدارک کا موقع جاتا رہا)

❁ **فِيْ سِعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوْزُ الْأَرْزَاقِ:** رزق کے خزانے وسعت اخلاق میں ہیں (خوش اخلاق بھوکا نہیں مرتا)

❁ **كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ:** اپنے نفس کا وصی بن (وصی: جسے کوئی کام سونپا جائے)

❁ **إِنَّ الْمُوَصَّيْنَ بَنُوْ سَهْوَان:** وہ لوگ جنہیں کسی چیز کی وصیت کی گئی بھولن ہار ہیں (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو وہ کام کرنا بھول جائے جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ السھوان: بھولنے والا یعنی آدمؑ جنہیں حکم دیا گیا لیکن وہ اس کو بھول گئے۔ گویا مثل کہتی ہے کہ تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ لوگ جنہیں وصیت کی گئی ہے اولاد آدمؑ ہیں)

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

❁ اَيْنَ يَضَعُ الْمَخْنُوقُ يَدَهُ؟: گلا گھونٹا ہوا اپنا ہاتھ کہاں رکھے؟

❁ ضَعِ الْفَأْسَ فِي الرَّأْسِ: تیشہ کو سر میں رکھ دے (یہ مثل جلدی کا خواہاں ہونے اور کام پورا کرنے کے بارے میں ہے)

❁ وَعْدُ الْكَرِيمِ دَيْنٌ: سخی کا وعدہ قرض ہے۔

❁ وَعْدٌ بلا وَفَاءٍ عَدَاوَةٌ بِلاَ سَبَبٍ: وعدہ جو پورا نہ کیا جائے بلاوجہ کی دشمنی کی دعوت دینا ہے۔

❁ اَلْعِدَةُ عَطِيَّةٌ: وعدہ ایک عطیہ ہے (وعدہ خلافی اسی طرح بری ہے جس طرح عطیہ واپس لے لینا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ وعدہ عطیہ کے مشابہ ہے۔

❁ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ: عرقوب کے وعدے (عمالیق میں سے ایک شخص عرقوب کے پاس اس کا بھائی سوالی بن کر آیا۔ عرقوب نے اس سے کہا کہ کھجور میں پھول آجائیں تو وہ تیرے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ وعدہ کھجور پر پھل آنے، پکنے اور خشک ہو کر چھوہارا بن جانے تک ٹلتا رہا۔ آخر الامر عرقوب نے وہ سب چھوہارے اتار کر رکھ لئے اور اپنے بھائی کو کچھ نہ دیا۔ جو حسب وعدہ بار بار آتا رہا تھا۔ عرقوب کا یہ عمل وعدہ خلافی میں ضرب المثل بن گیا۔

❁ وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَةً أَوْ طَبَقَةَ: چمڑے کا برتن اپنے ڈھکن کے مطابق ہو گیا یا شن طبقہ کے موافق ہو گیا (یہ مثل دو چیز کی موافقت و مطابقت کے لئے بولی جاتی ہے۔ اصمعی کا کہنا ہے: شن چمڑے کے اس برتن کو کہا جاتا ہے جو سکڑ گیا ہو اور اس کے لئے ایسا ڈھکن بنایا جائے جو اس کو فٹ آئے۔ بعض کے نزدیک شن عربوں کا ایک چالاک اور ہوشیار شخص تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنے جیسی عقلمند عورت سے شادی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس قسم کی لڑکی کی تلاش میں شہر شہر گھومنے لگا۔ سفر کے دوران ایک شخص اس کا رفیق سفر ہوا جو اپنے وطن جا رہا تھا۔ دونوں اپنی سواری پر جا رہے تھے۔ شن نے اس سے کہا: تو مجھے اٹھا کر چلے گا یا میں تجھے اٹھا کر چلوں؟ اس نے شن کو احمق سمجھا۔ شن کا یہ بات کہنے سے مقصد صرف یہ تھا کہ سفر بآسانی طے کرنے کے لئے میں کوئی بات چھیڑوں یا تم کوئی بات کہنا چاہو گے۔ دونوں کو ایک کھلیان نظر آیا۔ شن نے اپنے ساتھی سے پوچھا: کیا یہ کھیتی کھائی جا چکی ہے یا نہیں؟ اس کی مراد یہ تھی کہ کیا یہ کھیتی بک گئی اور اس کی قیمت لے کر صرف کی جا چکی ہے۔ پھر ایک جنازہ دیکھ کر شن نے اپنے ساتھ سے پوچھا کہ اس چارپائی پر کوئی زندہ ہے یا مردہ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مرنے والے کی کوئی اولاد یا وارث ہیں جو اس کا نام زندہ رکھیں گے۔ جب وہ شخص اپنے گھر پہنچا اور شن کے ہمراہ تھا تو اس کی بیٹی نے جس کا نام طبقہ تھا شن کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اپنی بیٹی کو پورے قصہ سے آگاہ کیا اور اسے جاہل قرار دیا۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا: ابا جان یہ شخص تو نہایت عقلمند اور ہوشیار ہے اور اپنے باپ کو بتایا کہ اس کے سوالات کا کیا مطلب تھا۔ اس پر اس شخص نے شن سے اپنی لڑکی نے جو کہا تھا بیان کیا۔ شن نے اس پر لڑکی سے نکاح کا پیغام دیا۔ لڑکی کے باپ نے اپنی لڑکی کی شن سے شادی کر دی۔ شن لڑکی کو لے کر اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے لڑکی کو دیکھ کر اس کی ذہانت کا حال معلوم کیا تو کہا شن طبقہ کے موافق ہے۔ اور ان کا یہ قول ضرب المثل بن گیا۔ اس بارے میں اور باتیں بھی کی جاتی ہیں۔

❁ إِنْ لَمْ يَكُنْ وِفَاقٌ فَفِرَاقٌ: موافقت کی عدم موجود کی صورت میں جدائی ہی بہتر ہے۔

❁ أَوْفَى مِنَ السَّمَوْأَلِ: سموأل سے زیادہ وفادار۔ (سموال نے کہا:

اذا المَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُّؤْمِ عِرْضُهُ
فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ

(جب آدمی کی آبرو کمینگی سے ملوث نہ ہو تو جو چادر بھی وہ پہن لے خوبصورت ہوگی۔ سموأل کی وفاداریوں میں سے ایک یہ ہے کہ امراء القیس بن حجر الکندی نے روم جاتے ہوئے اپنی کچھ زرہیں سموأل کے پاس امانت کے طور پر رکھیں۔ امراء القیس مر گیا تو شام کے بادشاہ نے سموأل پر چڑھائی کر دی۔ سموال قلعہ میں محصور ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے سموال کے ایک بیٹے کو قلعہ سے باہر گرفتار کر لیا اور سموال سے کہا اگر تو نے امراء القیس کی امانت میرے حوالے نہ کی تو میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا سموال نے امانت نہ دی تو بادشاہ نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ سموال دیکھتا رہا۔ بادشاہ ناکام واپس چلا گیا۔ حج کے موسم میں جب لوگ اکٹھے ہوئے تو سموال نے وہ زرہیں امراء القیس کے وارثوں کے حوالے کر دیں۔

❁ لاتقعنَّ البحر الا سابحًا: دریا میں اس وقت اترو جب تم کو تیرنا آتا ہو۔ مراد کوئی کام اس صورت میں کرنا چاہئے جس کی صلاحیت رکھتے ہو)

❁ اِتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ اِلَيْهِ: جس کے ساتھ تم نے احسان کیا ہو اس کے شر سے بچتے رہو۔ اس کے ہم معنی ہی قول ہے: سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ: اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو وہ تمہیں کھا جائے گا)

❁ قَدْ يُتَوَقَّى السَّيْفُ وَهُوَ مُغْمَدٌ: کبھی میان میں بھی تلوار سے خوف کیا جاتا ہے۔

❁ مَنْ اِتَّكَلَ زَادَ غَيْرِهِ طَالَ جُوعُهُ: جو غیر کے توشے پر بھروسہ کرے گا اس کی بھوک طویل ہوگی۔

❁ لاتَلِدُ الذئبة إِلَّا ذِئْبًا: بھیڑن بھیڑیا ہی جنا کرتی ہے۔

❁ هَلْ تَلِدُ الحَيَّةُ إِلَّا الْحَيَّةَ: کیا سانپن سانپ کے سوا کسی اور کو جنا کرتی ہے؟ سانپ کا بچہ سپولیا)

❁ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا: برا کام اس کے سپرد کرو جو اچھا کام کرنے کی ذمہ داری لے سکتا ہو یا اپنا بوجھ اس پر ڈالو جس نے تم سے فائدہ اٹھایا ہو۔ عربوں کے نزدیک حار مذموم ہے اور بارد پسندیدہ۔ حار العمل بمعنی مشکل کام اور قار العمل آسان کام کے معنی میں ہے۔

marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

❁ أَوْهَنُ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوْتِ: مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور۔

❁ عِنْدَكِ وَهْيٌ فَارْقَعِيْهِ: تیرے پاس بھی پھٹا ہوا (کپڑا) ہے لہٰذا پہلے اسے پیوند لگا۔ (تجھ میں بھی عیب ہے دوسروں کے عیب بتانے سے پہلے اپنا عیب دور کرلے۔

❁ وَيْلٌ لِلْحَسُوْدِ مِنْ حَسَدِهٖ: حاسد پر اس کے حسد سے ہی ہلاکت آتی ہے۔

❁ وَيْلٌ لِلرَّأْسِ مِنَ اللِّسَانِ: سر کی ہلاکت کا باعث زبان ہوتی ہے۔ (زبان درازی سے سر پھوٹا کرتے ہیں)

❁ وَيْلٌ لِلشَّجِيِّ مِنَ الخَلِيِّ: بےغم کے ہاتھوں غمگین مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ (یہ ضرب المثل اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جس کا ساجھی اچھا آدمی نہ ہو۔ یہ مثل کہتی ہے کہ بےغم غمگین اس کی مصیبت میں اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے ملامت کرتا ہے۔ الخلی: جو غم سے خالی یعنی بےغم ہو اور الشجی جو غمگین ہو۔

❁ وَيْلٌ لِعَالِمِ أَمْرٍ مِنْ جَاهِلِهٖ: نہ جاننے والے کے مقابلہ میں جاننے والا مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔

❁ وَيْلٌ أَهْوَنُ مِنْ وَيْلَيْنِ: ایک شر دو شروں سے آسان تر ہے۔ (دو ہوں تو ناقابل برداشت بن جائیں مصیبت زدہ کی تسلی کے لئے کہا جاتا ہے)

ی

❁ أَيْأَسُ مِنْ غَرِيْقٍ: ڈوبنے والے سے زیادہ ناامید۔

❁ يَدُ الْحُرِّ مِيْزَانٌ: شریف کا ہاتھ ایک ترازو ہے۔

❁ يَدٌ تَشُجُّ وَأُخْرٰى مِنْكَ تَأْسُوْنِيْ: تیرا ایک ہاتھ مجھے زخمی کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ مرہم لگاتا ہے۔

❁ وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللّٰهِ فَوْقَهَا: کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس پر خدا کا ہاتھ نہ ہو۔

❁ يَدُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ: ہاتھ تو تیرا ہی ہے اگرچہ بےکار ہو چکا ہو۔ یہ عربوں کے اس قول کے مانند ہے جس میں کہا گیا ہے: أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعَ: تیری ناک تیری ہی ہے خواہ کٹی ہوئی کیوں نہ ہو۔

❁ بِيَدَيَّ لَا بِيَدَيْكَ عَمْرُو: اے عمرو! اپنے ہاتھ سے تیرے ہاتھوں سے نہیں (الجزیرہ اور قنسرین کی ملکہ الزباء کی بیٹی جب قصیر و عمرو کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو اس نے کہا تھا۔ اس کے پاس زہر بھری انگوٹھی تھی۔ اس نے عمرو کے ہاتھوں قتل ہونے سے خود کو قتل کر ڈالنے کو ترجیح دی اور زہر چوس لیا۔

❁ هُمْ عَلَيْهِ يَدٌ وَاحِدَةٌ: وہ سب اس پر متفق ہیں۔

❁ هُوَ عِنْدِيْ بِالْيَمِيْنِ: وہ میرے نزدیک شریف مرتبہ ہے۔

❁ يَوْمُ السُّرُوْرِ قَصِيْرٌ: خوشی کا دن چھوٹا ہوتا ہے۔

❁ يَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا: ایک دن ہمارے موافق اور ایک دن مخالف ہوتا ہے۔ (حالات کے انقلاب اور ان پر تسلی مراد ہے)

❁ اَلْيَوْمَ خَمْرٌ وَغَدًا أَمْرٌ: آج شراب ہے تو کل ایک اہم معاملہ (آج شراب سے شغل رہے گا اور کل ایک اہم کام یعنی جنگ میں مشغولیت ہوگی۔ یہ امرء القیس بن حجر کندی کا مقولہ ہے۔ اس کے باپ نے اسے شعر و شاعری اور عورتوں سے عشق بازی کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ وہ یمن چلا گیا اور اس وقت تک وہیں رہا جب تک بنو اسد نے اس کے والد کو قتل نہیں کر دیا۔ اعور عجلی نے آکر اسے اس کے باپ کے قتل کی خبر دی۔ اس موقع پر اس نے کہا میرے باپ نے بچپن میں مجھے ضائع کر دیا اور بڑی عمر میں مجھے اپنے خون کا بدلہ لینے کی ذمہ داری ڈال دی۔ آج نشہ سے افاقہ نہیں ہوگا اور کل شراب نوشی نہ ہوگی۔ الیوم خمر وغداً امر۔ اس کا یہ قول ضرب المثل بن ہو گیا۔


❁ اَلْيَوْمَ سَلَامٌ وَغَدًا كَلَامٌ: آج سلام ہے اور کل کلام ہوگا۔

❁ مَا يَوْمُ حَلِيْمَةَ بِسِرٍّ: یوم حلیمہ کوئی سربستہ راز نہیں (مشہور و معروف جنگ کا واقعہ ہے، جس میں المنذر ابن ماء السماء قتل ہوا۔ یہ حلیمہ الحرث بن ابی شمر کی بیٹی تھی جس نے منذر بن ماء السماء پر لشکرکشی کی تھی حلیمہ نے اس لشکر میں جانے والوں کو اپنی تیار کردہ خوشبو لگائی تھی۔ اسی کے نام سے یہ معرکہ مشہور ہوا۔

❁ إِنَّ مِنَ الْيَوْمِ آخِرَهٗ: یقیناً دن کا آخر حصہ اسی دن کا جز ہے۔ تاخیر کے باوجود دن تو وہی ہے جسے دیر کرنے والا پایا جائے اسے کہا جاتا ہے: تو نے اپنی حاجت ضائع کر دی۔ اس مثل میں بتایا گیا ہے کہ اس کا صبح کا وقت اور شام کا وقت برابر ہے۔

❁ إِنَّ مَعَ الْيَوْمِ غَدًا يَا مُسْعِدَهْ: اے مسعدہ! آج کے ساتھ آنے والی کل بھی ہے۔ دنوں کے گزرنے اور باری باری آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ٹالنے کے بارے میں بھی یہ مثل بیان کی جاتی ہے۔


Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528




marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad




Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528




marfat.com

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad


Purchase This Book Online Contact: Whatsapp




رحل (الطوارق ، الجزائر)




رحل




جمل ذو سنامين




رحل جزائري




هودج جزائري




جمل الحراثة (القطر التونسي)




محمل لنقل المرضى




رحل آسيوي



رحل آسيوي



شكال او عقال



هودج



[illegible]



هودج (اولاد سليمان)

marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528




marfat.com
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad




marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad


Purchase This Book Online Contact: Whatsapp



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp


Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad




marfat.com

Purchase This Book Online Contact: Whatsapp

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



marfat.com
Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



Purchase This Book Online Contact: Whatsapp
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528